عربی زبان کی شہرہ آفاق لغت "المنجد" کا پہلا مکمل اُردو ترجمہ
کئی ہزار جدید عربی الفاظ کے اضافہ کے ساتھ

عربی و اردو

دورنگہ کمپوزنگ

المنجد

مترجم: عصمت ابوسلیم

مکتبہ دانیال

بسم الله الرحمن الرحیم

المنجد

عربی زبان کی شہرہ آفاق لغت "المنجد" کا پہلا مکمل اُردو ترجمہ
کئی ہزار جدید عربی الفاظ کے اضافہ کے ساتھ

دو رنگہ کمپوزنگ

المنجد

عربی و اُردو

مترجم: عصمت ابو سلیم

مکتبہ دانیال
غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
042.7660736

خوبصورت اور معیاری مطبوعات

ہماری پہچان

محمد ابوبکر صدیق

نے

نئیر اسد پرنٹر لاہور

مکتبہ دانیال

سے شائع کی۔

قیمت =/560 روپے

شیخ محمد بشیر اینڈ سنز

مکتبہ دانیال

شاپ نمبر 3 ملک جلال دین ہسپتال بلڈنگ

چوک اردو بازار لاہور

7660736

0333,4276640

PHONE 7660736 0333,4276640

المنجد میں مخففات اور علامات کی فہرست

(ا) مخففات

ھ: علم ھندسة (جومیٹری)
ك: علم کیمیاء
ب: فن بناء (تعمیر)
جج: جمع الجمع
ح: علم الحیوان
مو: موسیقی
فلك: علم فلك
ة: مفعول بہ
ز: زراعت
فا: اسم فاعل
ط ا: علم طبقات الارض
ت: تجارتی اصطلاح
ع ج: علم الجبر (الجبراء)
مص: مصدر
ف: علم الفیزیاء (طبعیات)
ا ع: اصطلاح عسکری
ص: صناعت
ن: علم نباتات
ع ا: علم اعضاء
مفع: اسم مفعول
حی: علم الحیل (قانونی داؤ، چال)
ط: علم مطنچی
ع ح: علم حساب
مث: مثنّٰی
ف ج: فنون جمیلہ
طب: طب

(ب) علامات

َـ سے مراد ہے کہ مضارع کے عین کلمہ پر زبر ہے۔ یعنی عین کلمہ مفتوح ہے۔
ُـ سے مراد ہے کہ مضارع کے عین کلمہ پر پیش ہے۔ یعنی عین کلمہ مضموم ہے۔
ِـ سے مراد ہے کہ مضارع کے عین کلمہ کے نیچے زیر ہے۔ یعنی عین کلمہ مکسور ہے۔
ـ سے مراد ہے کہ مضارع کا عین کلمہ مفتوح، مضموم اور مکسور ہے۔
○ سے مراد ہے کہ یہاں سے المنجد کے اگلے اصل لفظ تک الفاظ کے جدید معنے بیان کئے گئے ہیں۔

چند قابل توجہ باتیں

۱۔ عربی لغات میں عام طور پر اردو اور انگریزی کے برعکس مصدری معنے بتانے کے لئے پہلے فعل ماضی، پھر مضارع اور اس کے بعد مصدر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر فعل متعدی ہو تو آخر میں مفعول لایا جاتا ہے بعض الفاظ کے ساتھ صلہ جیسے من، عن، ل، اِلی، فی، علی، فوق، تحت، بین وغیرہ میں سے کوئی صلہ آتا ہے، جس سے معنی یا تو مختلف ہو جاتا ہے یا اس کی توضیح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

۲۔ اس لغات کو معانی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اور ہر مادہ کو مختلف اقسام میں تقسیم کر کے مرتب کیا گیا ہے۔

۳۔ کسی کلمہ کی تلاش مقصود ہو اور وہ مجرد ہو تو اس کے پہلے حرف کے باب میں دیکھیں اور اگر مزید فیہ ہو تو اسے مجرد بنا کر۔ اور اگر پہلا حرف کسی دوسرے لفظ سے بدلا ہوا ہو تو اسے اس کی اصل کی طرف لوٹا کر، پہلے حرف کے باب میں دیکھیں۔

۴۔ دو چند ثلاثی فعل کو مادہ کے اول میں رکھا گیا ہے جب کہ دو چند رباعی فعل کو، اسی قاعدہ کے مطابق جو اس لغات میں اختیار کیا گیا ہے، فعل ثلاثی الاصل کی طرف لوٹایا گیا ہے، جیسے صمصم کو اس کی اصل صمّ کی طرف لوٹایا گیا ہے۔ مَلْمَلَ کا ذکر مادہ مَلّ کے ساتھ کیا گیا ہے اور دَحْرَجَ کو اس کے مادہ دحر میں رکھا گیا ہے۔

۵۔ علامت (ـــ) اگر فعل کی جگہ ہو جیسے: اَشْكَلَ الامرُ: التبس (معاملہ کا مبہم ہونا) اور اس کے بعد مثلاً و ـــ الكتابَ: قيَّده بالحركات

(تحریر پر حرکات لگانا) ہوتو سمجھا جائے گا کہ و ـــ الكتاب: دراصل اشكل الكتاب ہے۔ اگر یہ علامات (-) فعل کی جگہ نہ ہو بلکہ کسی اور ترکیب میں آئے، تو دیکھنا چاہئے کہ اس سے پہلے کیا کہا گیا ہے۔ مثلاً الوقفة: المرة (اسم مرّة) کے بعد ہے و ـ من الترس: اور لکھا ہے کہ وہ کالوقف ہے یعنی وقف کے مانند ہے۔ لہٰذا معنی کا تعین کرنے کے لئے وقف کالفظ دیکھنا ہوگا۔ المنجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ الوقف کے معنے بتا کر و ـ من الترس کا معنی: ما يستدير بحافته من قرن او حديد و غير ذلك دیا گیا ہے، جس کا معنی "ڈھال کے گرد کا حلقہ جو سینگ یا لوہے وغیرہ کا بنا ہوا ہو" ہے۔ لہٰذا الوقفة من الترس کا معنی بھی وہی ہوگا جو الوقف من الترس کا ہے۔

٦۔ اسی طرح القليص: الكثير (بہت) اور و ـــ من المياه: المرتفع (ختم ہونے والا پانی) میں و ـــ من المياه دراصل القليص من المياه ہے۔

٧۔ کسی فعل کے ساتھ جو کچھ مذکور ہو وہ اس سے مقید نہ سمجھنا چاہئے بلکہ ایسا اکثر بطور مثال بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے رَاثَ الفرسُ کا معنی گھوڑے کا لید کرنا ہے تو رَاثَ (لید کرنا) صرف گھوڑے سے مخصوص نہیں بلکہ ہر کھر دار جانور کے لئے بولا جاتا ہے۔

٨۔ اضافی حصوں میں علامات کی تشریح:

فعل کے بعد ہ: کوئی شخص (نصبی حالت میں)

ہ: کوئی چیز (نصبی حالت میں)

ها: زندہ مخلوق کی مؤنث (نصبی حالت میں)

هم: لوگوں کا ایک گروہ (نصبی حالت میں)

ہ سے مراد یہ بھی ہے کہ یا تو وہ مفعول بہ ہے یا مفعول فیہ ہے۔

مثال کے طور پر قَتَلَہٗ کا معنی ہے کسی شخص کو قتل کرنا (مختصراً: کو قتل کرنا) حَدَّثَہٗ: کا معنی ہے: کسی شخص سے بات چیت کرنا (مختصراً: سے بات چیت کرنا)۔ حَدَّثَ ہ ہ/ب: کا معنی ہے کسی شخص کو کچھ بتانا (مختصراً: کو کچھ بتانا) اور حَدَّثَ ہ ہ/ب/من/في: کا معنی کسی شخص کو کوئی بات کسی شخص یا چیز کے بارے میں بتانا (مختصراً: کو کچھ کے بارے میں بتانا)، جب کہ حَدَّثَ ہ عن/في کا معنی ہے کسی شخص سے کسی شخص یا چیز کے بارے میں گفتگو کرنا۔ دَخَلَ ہ کا معنی ہے کسی چیز میں داخل ہونا (مختصراً میں داخل ہونا) ظاہر ہے داخل ہونا سے مراد کسی جگہ میں داخل ہونا ہی ہوگا لہٰذا وہ جگہ کوئی کمرہ، عمارت وغیرہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسجد میں داخل ہوا ہے تو کہا جائے گا دَخَلَ مسجداً اور اگر وہ معرفہ بالسلام ہے تو کہا جائے گا دخل المسجدَ: وہ اس مسجد میں داخل ہوا اس صورت میں ہ مفعول فیہ کی قائم مقام ہوگی۔ اسی طرح ہ: اگر کسی نے زید نامی شخص کو مارا پیٹا ہے تو کہا جائے گا ضَرَبَ زیداً: اس نے زید کو مارا پیٹا۔ (مختصراً: کو مارا پیٹا)۔ بعض افعال دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں تو اس کو اس طرح ظاہر کیا گیا ہے: اَلْبَسَ ہ ہ: کسی شخص کو کچھ پہنانا (مختصراً: کو کچھ پہنانا) اگر اسے قمیص پہنائی گئی تو کہیں گے اَلْبَسَهٗ قميصاً: کسی شخص نے اس شخص کو قمیص پہنائی۔ اگر زید کو قمیص پہنائی تو کہیں گے اَلْبَسَ زیداً قميصاً: اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل ماضی اور مضارع بھی مؤنث ہوگا۔ جیسے: وَلَدَتِ الارضُ النباتَ: زمین کا نباتات اگانا۔ ہ کا مفعول بہ ہونے کی مثال: قَطَعَ ہ: کسی چیز کو کاٹنا (مختصراً: کو کاٹنا) معنی بیان کرنے کے لئے عموماً فعل ماضی مطلق کا واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ حسب موقع اس کی جگہ کوئی اور صیغہ استعمال کریں گے تو معنی میں اس کے مطابق تبدیلی آجائے گی۔ مثلاً آپ کہیں: میں نے دیکھا تو کہا جائے گا: رَأَيْتُ: ہم نے دیکھا: رَأَيْنَا: انہوں نے دیکھا: رَأَوْا: اسی طرح رَأَتْ: اس عورت نے دیکھا۔ رَأَى: اس مرد نے دیکھا۔ تو نے دیکھا: رَأَيْتَ تم نے دیکھا۔ رَأَيْتُم وغیرہ۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مقدمہ

(جو المنجد فی اللغۃ کے ۱۷ویں ایڈیشن سے متعلق ہے اور اس کے ۲۳ویں ایڈیشن سے لیا گیا ہے)

المنجد نصف صدی سے طالب علموں اور ادیبوں کا رفیق ہے۔ اس کی تجدید کی جاتی رہی ہے، تا کہ خواص وعوام کے سامنے مثالی عربی ڈکشنری بن جائے۔

اس کا ذخیرہ الفاظ دراصل پادری لویس معلوف الیسوعی کی منجد سے ماخوذ، کیتھولک پریس کا ایک نفیس ورثہ ہے۔ اس میں سینکڑوں الفاظ اور معاصرین کی زبان کے جدید معانی کے علاوہ ہزار سے زائد اہل علم اور علم ومعرفت کے مختلف شعبوں کے ماہرین کی اصطلاحات کا اضافہ کیا گیا ہے۔

مزید افادیت کی غرض سے، ہم نے بہت سے قدیم وجدید الفاظ کو علمی تشریح، رائج الوقت تعریف اور آج کل کے انداز بیان سے واضح کیا ہے اور پیچیدہ الفاظ کی ممکن حد تک وضاحت کی ہے۔

مزید برآں، ہم نے 'مادری' زبان کے ذکر میں، جس سے اجنبی الفاظ متعلق ہیں، اسی طرح پوری کوشش کی ہے جس طرح علم کے میدانوں: طب، زراعت، کیمیاء، علم نباتات وغیرہ کی تعیین میں، جس کے بعض الفاظ بطور تخصص ومہارت استعمال ہوتے ہیں۔

اس تجدید کا فیصلہ کرتے وقت، ہمارے پیش نظر زیادہ اہمیت کی حامل یہ سوچ تھی کہ اس عربی ڈکشنری کے استعمال کو آسان بنانے کا طریقہ معلوم کیا جائے، چنانچہ بار بار کے تجربہ اور طویل محنت وجانفشانی کے بعد زبان کی روح اور ڈکشنریوں کی روایات برقرار رکھنے کا طریقہ دریافت کرنے میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ثلاثی اور رباعی اصل کے متعدد معانی ہوتے ہیں، جن میں سے مثال کے طور پر کچھ تو دوسروں سے نکلتے ہیں جیسے مجازی، حقیقی سے اور کوئی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے معنوں میں موازنہ کا پہلو پیدا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے ان اصل معانی کی طرف رجوع کے ذریعے ان کی درجہ بندی کی، بعدازاں، ان مختلف معانی میں سے ہر معنی کے ضمن میں، ان کے مشتقات کو روایتی انداز میں مرتب کیا۔ ہمیں کچھ آسانیاں پیدا کرنے کی بھی توفیق ہوئی، جن کا ذکر ہم نے منجد کے جدید استعمال کی کیفیت کی تشریح میں کیا ہے۔

ہر "بنیادی لفظ" کو، خواہ اصل ہے یا مشتق، سرخ رنگ سے طبع کرنے کی غرض محض کتاب کا استعمال آسان بنانا اور قارئین کا وقت بچانا ہے۔ (عربی المنجد میں)

ہماری نگاہ سے یہ بات اوجھل نہیں کہ ہمارا طریقہ بالکل بے عیب نہیں ہوسکتا، تاہم منفعت کی فراوانی کے علاوہ کامیاب جدوجہد کے مقابلہ میں نقطہ آغاز سے قریب تر ضرور ہے۔ اغلب گمان یہ ہے کہ ہمارا یہ عمل اغلاط سے خالی نہیں ہوگا، لہٰذا ارباب لغت سے درخواست ہے کہ وہ ازراہ کرم ہمیں ہماری غلطیوں سے مطلع فرمائیں۔

اس کام میں، محنت اور صبر وتحمل کے سات سال لگے۔ اس میں لغوی، فنی اور پیشہ ورانہ مہارت کے حامل دسیوں، دوستوں اور معاونین نے حصہ لیا ہے۔ لیکن المنجد کے لغوی متن کی تجدید میں زیادہ تر حصہ پروفیسر کرم البستانی، ماہر علم نباتات پادری الیسوعی بولس موتر د اور پروفیسر

عادل انبوبا کا ہے۔ موخر الذکر پروفیسر کئی سال سے ریاضیات اور طبیعیاتی علوم کی تمام فروع میں عربی لغت کے احیاء پر ثابت قدمی سے کام کر رہے ہیں۔

مخفی نہ رہے کہ ان سب نے کسی نہ کسی خاص میدان، تحقیق اور تراجم پر عرب ممالک کے علماء اور ماہرین لسانیات کی تصنیف کردہ لغات سے استفادہ کیا ہے۔

جہاں تک پروفیسر انطون نعمہ کا تعلق ہے، تو انہوں نے خاص طور پر الفاظ کے معانی کی درجہ بندی اور ترتیب میں دلچسپی لی۔ ان کا یہ کام مشکلات سے خالی نہ تھا۔

اس طرح، المنجد بالاخر موجودہ شکل کو پہنچی ہم عمل کی اس دستاویز، کلام کی کلید اور علوم کی دولت کو، جو کوئی آسان کام نہیں، قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

بیروت ۱۵ اگست ۱۹۶۰ء

کیتھولک پریس

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

عرض مترجم

جہاں عربی کو یہ فوقیت ملی ہے کہ وہ متعدد ممالک کی مادری زبان ہے، وہاں یہ شرف عظیم بھی اس کے حصے میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اُسے اپنے آخری نبی ﷺ پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کرنے کے لئے منتخب فرمایا۔ قرآن مجید سے پہلے کی تمام وہ زبانیں جن میں صحف سماویہ نازل ہوئے اب کہیں نہیں بولی جاتیں اور نہ ہی وہ صحف اپنی اصل زبان میں دستیاب ہیں۔ صرف ان کے ترجمے ملتے ہیں جب کہ قرآن مجید انہی الفاظ اور اسی ترتیب سے آج بھی موجود ہے۔ جن الفاظ اور جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ﷺ نے اسے امت کے سپرد کیا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم ﷺ کے مابین تقریباً ۶۰۰ سال کا زمانی وقفہ ہے، جو کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی انجیل حیرت انگیز طور پر ناپید ہے اور اس کی جگہ چار انجیلوں نے لے رکھی ہے، جن کے مصنفین متی، یوحنا، لوقا اور مرقس ہیں۔ **المنجد فی الاعلام** میں انجیل کے عنوان کے تحت لکھا ہے: **الانجيل كلمة يونانية معناها البشارة و الاناجيل مجموعة اعمال المسيح و اقواله و صلت الينا باربع روايات و ضعها متي و يوحنا و هما من الرسل و لوقا و مرقس و هما من تلاميذ المسيح سميت بالانجيل لأنها أتت للانام ببشرى الخلاص عن المسيح الفادي** (انجیل یونانی لفظ ہے، جس کا معنی خوشخبری ہے۔ اناجیل مسیح کے اعمال واقوال کا مجموعہ ہے، جو ہم تک چار روایات کے ذریعے پہنچا، جن کے واضعین متی اور یوحنا آپ کے حواری اور لوقا اور مرقس آپ کے شاگرد تھے۔ اس مجموعہ کو انجیل کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ لوگوں کے پاس نجات دہندہ مسیح کی مدد سے نجات کی خوشخبری لے کر آیا۔

عربی زبان علمی، ادبی، ثقافتی وغیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے، متعدد خصوصیات اور گوناگوں صلاحیتوں کی حامل ہے اور اس کی دینی حیثیت مسلم ہے۔ اس زبان کی وسعت کا یہ حال ہے کہ آئے دن نت نئی ہونے والی ایجادات، جن کے نام ان کے موجدوں کی طرف سے رکھے جاتے ہیں، ماہرین لسانیات بآسانی انہیں عربی جامہ پہنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیلیفون کے لئے عربی میں **هاتف**، موبائل کے لئے (جو دراصل موبائل ٹیلیفون ہے) **هاتف متحرك** یا **هاتف جوّال** یا **هاتف نقال**، کمپیوٹر کے لئے **العقل الالكتروني**، انسٹ (inset) کے لئے جو بڑی فوٹو کے کسی کونہ میں چھوٹی تصویر کے معنی میں ہے، **اطار** ہے۔ جب کہ پہلے سے یہ لفظ (اطار) فریم، عینک کے فریم، پہیے کے ٹائر اور پہیے اور پیپے کے گرد کڑے کے معنوں میں مستعمل ہے۔ ہر قسم کی گاڑیوں کے پہیوں کے ٹیوب کو **اطار داخلي** کہا جاتا ہے۔ اور پہیئے کے رم (Rim) کے لئے **اطارة** کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ آج کل میڈیا (Media) عربی میں **وسائل الاعلام** کے معنی میں ہے۔ **وزير الإعلام** وزیر اطلاعات کے معنی میں اور اس سے صفت کا صیغہ اعلامی ہے۔ جیسے **الحرب الاعلامية** یعنی میڈیا جنگ (Media War) میں۔ ان دنوں دہشت گردی کا بڑا چرچا ہے۔ عربی میں اس کے لئے **ارهاب** کا لفظ ہے اور دہشت گرد (اسم) اور دہشت گردانہ (صفت) کے لئے **ارهابي** جمع **ارهابيون**۔ دہشت گردی کی کارروائیوں کے لئے **العمليات الارهابية** جب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو **محاربة الارهاب** یا **الحرب على الارهاب** کہا جاتا ہے۔ عربی میں انگریزی وغیرہ کے الفاظ کا استعمال بہت کم ہے۔ اس کے

برعکس ہمارے ہاں عموماً انگریزی لفظ کومن وعن اپنالیا جاتا ہے۔ مثلاً ٹیلیفون، سٹیشن، موبائل، ریلوے سٹیشن وغیرہ کا استعمال عام ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں برطانوی راج کے آخری ایام میں تو کالجوں کے طلبہ اس قسم کی زبان بولنے لگے تھے، جیسے اس مثال سے ظاہر ہے: ''میں اس matter میں آپ کے father کی opinion کے entirely against ہوں۔ گذشتہ چند سالوں کے دوران تو ایک اور گل کھلا۔ لاہور ریلوے سٹیشن کی عمارت کی پیشانی پر انگریزی میں جو بورڈ آویزاں کیا گیا، اس پر تحریر ہے Lahore Railway Station جب کہ اسی عبارت کا اردو میں اسٹیشن کے کسی اور نمایاں مقام پر بورڈ لگانے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کی گئی، جو قومی بے حسی اور ذہنی غلامی کی افسوسناک مثال ہے۔

مزید برآں حکومت کی طرف سے بصرف زرکثیر، اکل وشرب کے بازار آراستہ کئے گئے ہیں، جن کا نام Food Streets رکھا گیا ہے۔ اس سے برسر اقتدار طبقہ کے غلط قبلہ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تعلیم کی فراہمی حکومت کی ایک اہم ذمہ داری ہے، لیکن تعلیمی اداروں کو نجی ملکیت میں دیا جارہا ہے جس سے حصول تعلیم از حد گراں ہو جائے گا اور غریبوں کے بچے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ شرح خواندگی زبردست حد تک گر جائے گی اور ملک پسماندہ تر ہو جائے گا۔ ایسے اقدامات ملک عزیز کے لئے سخت ضرررساں ہیں۔

ہمارے دینی مدارس کا نصاب تعلیم اصلاح طلب ہے، ان سے فارغ التحصیل ہونے والے قابل رشک قابلیت کے حامل نہیں ہوتے۔ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے، عرب ممالک سے ہمارے تعلقات صرف دینی نوعیت کے نہیں ہونے چاہئیں بلکہ ضروری ہے کہ یہ تعلقات سیاسی، تجارتی، سائنسی، فوجی وغیرہ تمام میدانوں میں استوار ہوں۔ عرب ممالک سے روابط بڑھانا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ جس کے لئے عربی میں مہارت ہونی چاہئے۔ خصوصاً عصر حاضر میں جدید عربی سے واقفیت ضروری ہے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر خاکسار نے اس لغات میں، ناشرین کی اجازت سے، ہنس ویئر Hans wehr کی عربی انگریزی ڈکشنری سے ایک بڑے ذخیرۂ الفاظ کا ترجمہ کر کے اضافہ کیا ہے۔ یہ ڈکشنری لکھی جانے والی عصری عربی کے الفاظ پر مشتمل ہے۔ امید ہے یہ سعی قارئین کے عصر حاضر کے جدید تقاضوں کو بڑی حد تک پورا کرنے میں ممد ومعاون ثابت ہوگی۔

عصمت ابوسلیم
سابق مترجم، عراقی سفارت خانہ، اسلام آباد

ثلاثی مزید فیہ افعال کے اہم اغراض

فَعَّلَ:

۱۔ تعدیۃ: جیسے فَرَّحْتُهُ: میں نے اسے خوش کیا۔

۲۔ تکثیر: جیسے قَطَّعْتُ الحبلَ: میں نے رسی کے کئی ٹکڑے کئے۔

۳۔ نسبت: جیسے كَفَّرْتُهُ: میں نے اس کی کفر کی طرف نسبت کی۔

۴۔ سلب: جیسے قَشَّرْتُ العودَ: میں نے لکڑی کی چھال اتاری۔

۵۔ اسم سے فعل بنانا: جیسے خَيَّمَ القومُ: لوگوں نے خیمے نصب کئے۔

فَاعَلَ:

۱۔ مشارکت: (ایک کا دوسرے کے ساتھ وہی کچھ کرنا جو دوسرا اس سے کرے اور یوں ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی: جیسے ضارب زيدٌ عمرا: زید اور عمر باہم لڑے۔

۲۔ تکثیر: جیسے ضَاعَفَ ہ: کو دگنا کرنا، دوچند کرنا۔

۳۔ بمعنی أَفْعَلَ: عافاك الله: اللہ نے اسے صحت وعافیت دی۔ باعَدْتُهُ: میں نے اسے دور کر دیا۔

۴۔ فَاعَلَ: کا ثلاثی مجرد کے معنی میں ہونا: سَافَرَ زيدٌ: زید سفر کے لئے روانہ ہوا۔ قَاتَلَهُ اللّٰهُ: اللہ نے اس پر لعنت کی۔ بارَكَ اللّٰهُ فيه: اللہ نے اسے بابرکت بنایا۔

أَفْعَلَ:

۱۔ تعدیۃ: أَكْرَمْتُ الرسولَ: میں نے قاصد کی تعظیم۔

۲۔ دخول: أَمْسَى ابنُ السبيلِ: مسافر شام میں داخل ہوا۔ أَصْبَحَ: وہ صبح میں داخل ہوا۔

۳۔ کسی جگہ کا قصد کرنا: جیسے أَحْجَزَ: اس نے حجاز کا قصد کیا۔ أَعْرَقَ: اس نے عراق کا قصد کیا۔

۴۔ جس سے فعل مشتق ہو اس کا فاعل میں پایا جانا: أَثْمَرَتِ الشجرةُ: درخت پھل دار ہوا (ثمر بمعنی پھل)

۵۔ مبالغہ: جیسے أَشْغَلْتَهُ: میں نے اسے بہت مشغول کیا۔

۶۔ وجدان: جیسے اعظمته: میں نے اسے عظیم پایا، أَحْمَدْتُهُ: میں نے اسے محمود پایا۔ أَكْبَرْتُهُ: میں نے اسے بڑا پایا۔

۷۔ صیرورت: جیسے أَقْفَرَ البلدُ: شہر اجاڑ ہو گیا۔

۸۔ عرض: أَبَاعَ العبدَ: اس نے غلام کو بیچنے کے لئے پیش کیا۔

۹۔ سلب: جیسے أَشْفَى المريضُ: مریض کی صحتیابی جاتی رہی۔

۱۰۔ حینونۃ: جیسے أَحْصَدَ الزرعُ: فصل کی کٹائی کا وقت آ گیا۔

۱۱۔ کبھی أَفْعَلَ کا ثلاثی مجرد کے معنی میں آنا، جیسے: أَقَلْتُ البَيْعَ: میں نے فروخت منسوخ کر دی۔

تَفَعَّلَ:

۱۔ مطاوعتِ فَعَّلَ: كَسَّرْتُ الزجاجَ فتكسَّرَ: میں نے شیشہ توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔

۲۔ تکلّف: جیسے تَشَجَّعَ عمرو: عمر نے خود کو بہادر ظاہر کیا (وہ بہادر بنا)

۳۔ اتّخاذ: جیسے تبَنَّيْتُ يوسفَ: میں نے یوسف کو بیٹا بنالیا۔

۴۔ تجنّب: جیسے تَهَجَّدَ: وہ رات کو جاگتا رہا (سونے سے پرہیز کیا) تَأَثَّمَ: وہ برائی سے بچا۔ تَذَمَّمَ: اس نے مذمت چھوڑ دی۔

۵۔ صیرورت: جیسے تَأَيَّمَتِ المرأةُ عورت بیوہ ہوگئی۔

۶۔ تدریج: تَجَرَّعَ: اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے پیا۔

۷۔ طلب: جیسے تَعَجَّلَ الشئَ: وہ چیز کی جلدی کا طالب ہوا۔ تَبَيَّنَهُ: وہ وضاحت کا خواہاں ہوا۔

۸۔ اتخاذ: جیسے تَوَسَّدَ الحجرَ: اس نے پتھر کو تکیہ بنایا۔

۹۔ انتساب: جیسے تَبَدَّى: وہ بادیہ سے منسوب ہوا، بدوی ہوگیا۔

تَفَاعَلَ:

۱۔ مشارکت: تَصَالَحَ القومُ: لوگوں نے ایک دوسرے سے صلح کی۔ تَشَارَكَ الرجُلانِ: ان دو مردوں نے ایک دوسرے سے شراکت۔

۲۔ مطاوعتِ فَاعَلَ: جیسے باعدتُهُ فَتَبَاعَدَ: میں نے اسے دور کیا تو وہ دور ہوگیا۔

۳۔ تخییل: جیسے تَمَارَضْتُ: میں نے خود کو بیمار ظاہر کیا۔

۴۔ تدریج: جیسے تَوَارَدَ القومُ لوگ ایک ایک کر کے آئے۔

۵۔ مجرّد کے معنی میں ہونا: جیسے تَعَالَى و تَسَامَى: اللہ بلند و بالا ہے (عَلَى اور سما کے بھی یہی معنی ہیں)

اِفْتَعَلَ:

۱۔ مطاوعتِ فَعَلَ: جیسے جَمَعْتُهُ فَاجْتَمَعَ: میں نے اسے اکٹھا کیا تو وہ اکٹھا ہوگیا۔

۲۔ اسم سے فعل بنانا: جیسے اِخْتَبَزَ: اس نے روٹی پکائی (خبز بمعنی روٹی)

۳۔ مبالغہ: جیسے اِكْتَسَبَ: اس نے کوشش کر کے کمایا۔

۴۔ طلب: جیسے اِكْتَدَّ فلانا: کسی سے محنت کا طالب ہونا۔

۵۔ فَعَلَ کے معنی میں ہونا: جیسے اِجْتَذَبَ: اس نے کھینچا (جَذَبَ کا بھی یہی معنی ہے)

۶۔ تَفَاعَلَ کے معنی میں ہونا، جیسے اِخْتَصَمَ بمعنی تَخَاصَمَ: باہم جھگڑنا۔

اِنْفَعَلَ:

۱۔ مطاوعتِ فَعَلَ: كَسَرْتُهُ فَانْكَسَرَ: میں نے اسے توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔

۲۔ مطاوعتِ اَفْعَلَ (اس کا استعمال بہت کم ہے): جیسے اَزْعَجَهُ فَانْزَعَجَ: اس نے اسے پریشان کیا تو وہ پریشان ہوگیا۔ اَصَارَهُ فَانْصَارَ: اس نے اسے جھکایا تو وہ جھک گیا۔

(باب انفعال ہمیشہ فعل لازم ہوتا ہے اور ایسے معانی کے لئے آتا ہے جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہو)

اِفْعَلَّ:

۱۔ صفت میں داخل ہونے پر دلالت: جیسے اِحْمَرَّ البُسر: گدر کھجوروں میں سرخی آگئی۔

۲۔ مبالغہ: جیسے اِسْوَدَّ اللیلُ: رات کی تاریکی بڑھ گئی (یہ باب اکثر رنگوں اور عیوب کے معنوں میں آتا ہے)

اِسْتَفْعَلَ:

۱۔ طلب: جیسے اِسْتَغْفَرَ: اس نے مغفرت طلب کی۔

۲۔ وجدان: جیسے اِسْتَعْظَمَ الامرَ و اِسْتَحْسَنَهُ: اس نے معاملہ کو بڑا اور اچھا پایا۔

۳۔ تحوّل: جیسے اِسْتَحْجَرَ الطینُ: مٹی پتھر بن گئی۔

۴۔ تکلّف: جیسے اِسْتَجْرَأَ: اس نے جرأت دکھلائی۔

۵۔ مطاوعت: جیسے أَرَاحَهُ فَاسْتَرَاحَ: اس نے اسے آرام پہنچایا تو اس نے آرام پایا۔

۶۔ موافقت مجرّد: جیسے اِسْتَقَرَّ بمعنی قَرَّ: ٹھہرنا۔

اِفْعَوْعَلَ:

۱۔ مبالغہ: جیسے اِحْقَوْقَفَ: وہ بہت لمبا اور ٹیڑھا ہوگیا۔ اِحْدَوْدَبَ: وہ بہت کبڑا ہوگیا۔

۲۔ مجرّد کے معنی میں ہونا: جیسے اِحْلَوْلَی التمرُ: کھجور میٹھی ہوگئی۔

اِفْعَوَّلَ:

۱۔ مبالغہ: جیسے اِجْلَوَّذَ: وہ بہت تیز دوڑا۔ اِحْمَارَّ: وہ بتدریج بہت سرخ ہوگیا۔ (یہ باب رنگوں اور عیوب سے مخصوص ہے)

تَفَعْلَلَ:

مطاوعت زَعْزَعَ: جیسے زَعْزَعْتُهُ فَتَزَعْزَعَ: میں نے اسے سخت حرکت دی تو وہ ہل گیا۔ (زَعزع رباعی مجرّد ہے اور تَزَعْزَعَ رباعی مزید فیہ)

اِفْعَلَلَّ و اِفْعَنْلَلَ:

یہ دونوں فعل مبالغہ کا معنی دیتے ہیں، جیسے اِخْرَنْجَمَتِ الابلُ: اونٹ ڈھیر کی صورت میں اکٹھے ہوگئے۔ اِقْشَعَرَّ جِلْدُهُ: وہ کانپ کر سمٹ گیا۔

(علماء صرف کے نزدیک ان کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں، لیکن انہیں طوالت کے خوف سے نظر انداز کردیا گیا ہے، ابواب مزید فیہ کی اکثریت سماعی ہے۔ لہٰذا ہر مجرد سے قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا مدار کتب لغت پر ہے)۔

مشتقات:

فعل سے مشتق اسماء مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) مصدر (۲) اسم مرّہ (۳) اسم نوع (۴) اسم مکان (۵) اسم زمان (۶) اسم آلہ (۷) اسم فاعل (۸) اسم مفعول (۹) صفت مشبہ (۱۰) افعل التفضیل (۱۱) مبالغہ

مصدر :

ثلاثی مجرّد کے مصادر قیاسی نہیں۔ان کے بہت سے اوزان ہیں اور ان کا مدار سماع پر ہے لیکن مشہور حسب ذیل ہیں:

۱۔ پیشہ کے معنوں پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فِعَالَة، جیسے زراعة، تجارة حیاکة۔

۲۔ امتناع کے معنوں پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فِعال ہے جیسے اِباء، شِراد، جماح۔

۳۔ اضطراب کے معنی پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فَعَلان ہے، جیسے غلَیان، جوَلان، خفَقان۔

۴۔ امراض پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فُعَال ہے، جیسے: صُدَاع: زکام، دُوَام

۵۔ سیر پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فَعِیل ہے، جیسے: رَحِیل، ذَمِیل۔

۶۔ آواز پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فُعَال اور فعیل ہے، جیسے: صُرَاخ، زَئِیر۔

۷۔ رنگوں پر دلالت کرنے والے مصادر کا وزن فُعْلَة ہے جیسے: حُمْرَة، زُرْقَة، خُضرَة۔ اگر ان پر دلالت نہ ہو تو عموماً:

۱۔ فَعُلَ کا مصدر فُعُولَة یا فَعَالَة کے وزن پر آتا ہے جیسے سُهُولَة، نبَاهَة، فَصَاحَة۔

۲۔ فعل لازم (فَعِلَ) کا مصدر فَعَلَ آتا ہے، جیسے: فَرَح، عَطَش، بلَج۔

۳۔ فَعَلَ لازم کا مصدر فُعُول پر آتا ہے جیسے: قُعُود، خُرُوج، نُهُوض۔

۴۔ فَعِلَ اور فَعَلَ سے متعدی کا مصدر فَعْل آتا ہے جیسے فَهْم، نَصْر۔

غیر ثلاثی کے مصادر

ثلاثی مجرد کے علاوہ سارے مصادر قیاسی ہیں۔

۱۔ فَعَّلَ کا مصدر تَفْعِیل: جیسے فَرَّحَ سے تَفْرِیح کبھی تَفْعِلَة کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے وَسَّعَ سے تَوْسِعَة، قَدَّمَ سے تَقْدِمَة: اگر ناقص (مہموز اللام) ہو تو اکثر تَفْعِلَة آتا ہے اور تَفْعِیل بہت کم آتا ہے۔ جیسے: نَبَّأَ سے تَنْبِئَة، وَطَّأَ سے تَوْطِئَة اور هَنَّأَ سے تَهْنِئَة اگر معتل اللام ہو تو صرف تَفْعِلَة آتا ہے، جیسے: حَلَّى سے تَحْلِيَة، زَكَّى سے تَزْكِيَة، اجوف سے فَعَّلَ کا مصدر صرف تَفْعِیل آتا ہے، جیسے: جَوَّفَ سے تَجْوِیف، قَوَّمَ سے تَقْوِیم۔

فَاعَلَ کا مصدر فِعَال اور مُفَاعَلَة آتا ہے، جیسے: قَاتَلَ سے قِتَال و مُقَاتَلَة تاہم جس فعل کا فاکلمہ یا ہو تو مصدر مُفَاعَلَة: آتا ہے، جیسے: یَاسَرَ سے میاسَرَة، یَامَنَ سے مُیَامَنَة، یَاوَمَ سے مُیاوَمَة اور یِوَام شاذ ہے۔

اَفْعَلَ کا مصدر اِفْعَال ہے، جیسے: اَكْرَمَ سے اِكْرَام، اگر عین کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو منتقل کر کے الف سے بدل دیتے ہیں، دو الف کے جمع ہونے کی وجہ سے ایک کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں، جیسے اَمَاتَ سے اِمَاتَة، أغاثَ سے اِغَاثَة اور أشَارَ سے اِشَارَة ہیں۔

تَفَعَّلَ کا مصدر تَفَعُّل ہے، جیسے تَقَدَّمَ سے تقدُّم

جب لام کلمہ حرف علت ہو تو اس کے آخری الف کو یا میں بدل کر ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے: تَأَنَّى سے تَأَنِّي۔

تَفَاعَلَ کا مصدر تَفَاعُل ہے، جیسے تَقَادَمَ سے تقادُم۔

جب لام کلمہ حرف علت ہو تو اس کے آخری الف کو یا سے بدل کر اس کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے تَغَاضَى سے تَغَاضِي۔

اِفْتَعَلَ کا مصدر اِفْتِعَال ہے، جیسے: اِشْتَرَکَ سے اِشْتِرَاك۔

اِفْعَلَّ کا مصدر اِفْعِلَال ہے، جیسے اِحْمَرَّ سے اِحْمِرَار۔

اِنْفَعَلَ کا مصدر اِنْفِعَال ہے جیسے: اِنْطَلَقَ سے اِنْطِلَاق۔

اِسْتَفْعَلَ کا مصدر اِسْتِفْعَال ہے، جیسے: اِسْتَخْرَجَ سے اِسْتِخْرَاج۔

اِسْتَفْعَلَ کا عین کلمہ حرف عِلّت ہو، تو اسے الف سے بدل کر حذف کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں تاء بڑھا دیتے ہیں، جیسے: اِسْتِقَامَ سے اِستقامة۔

اِفْعَوْعَلَ کا مصدر اِفْعِیلَال ہے، جیسے: اِحْدَوْدَبَ سے اِحْدِیْدَاب۔

فَعْلَلَ کا مصدر فَعْلَلَة اور فِعْلَال ہے۔ جیسے: دَحْرَجَ سے دَحْرَجَة و دِحْرَاج۔ دوسرا وزن صرف مضاعف ہونے کی صورت میں قیاسی ہے، ورنہ سماعی، جیسے وَسْوَسَ سے وَسْوَسَة اور وِسْوَاس۔

تَفَعْلَلَ کا مصدر تَفَعْلُل ہے، جیسے: تَدَحْرَجَ سے تَدَحْرُج۔

اِفْعَنْلَلَ کا مصدر اِفْعِنْلَال ہے، جیسے: اِحْرَنْجَمَ سے اِحْرِنْجَام۔

اِفْعَلَلَّ کا مصدر اِفْعِلَّال ہے، جیسے: اِقْشَعَرَّ سے اِقْشِعْرَار

فعل مجہول کے لئے کوئی خاص وزن نہیں، فعل معروف کا مصدر اس کا کام دیتا ہے، جیسے: ضُرِبَ سے ضَرْبًا۔

مصدر میمی

مصدر میمی ثلاثی مجرد سے مَفْعَل کے وزن پر آتا ہے، جیسے: مَنْظَر، مَضْرَب۔ مَرْمَی اس قاعدے سے یہ چھ الفاظ مستثنیٰ ہیں: الْمَجِئ، الْمَرْجِع، الْمَسِیر، الْمَصِیر، الْمَشِیب۔

مثال واوی سے جس کا عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو، تو مَفْعِل کے وزن پر آتا ہے، جیسے: مَوْعِد، مَوْجِل جبکہ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع مجہول کے وزن پر، علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگا کر، جیسے مُنْحَدَر، مُضْطَبَر، مُزْدَحَم۔

اسم مرہ و اسم نوع

المرّۃ وہ مصدر ہے جو فعل کے ایک مرتبہ واقع ہونے کو ظاہر کرے، جبکہ اسم نوع وہ مصدر ہے جس سے فعل کی ہیئت اور نوع معلوم ہو۔ ثلاثی مجرد سے اسم مرۃ فَعْلَة کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضربتُ ضَرْبَةً، اخذتُ اخذة، مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اس کے مصدر کے آخر میں "ۃ" کے اضافہ کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے اِلتفتُ التفاتةً و انطلقتُ الطلاقةً اگر مصدر ثلاثی وغیرہ کے آخر میں 'ۃ' ہو تو اسم مرۃ لانے کی صورت میں کسی ایسی چیز کا لانا ضروری ہے جس سے وحدت ظاہر ہو، جیسے ضربتُه ضربةً واحدةً قاتلتُه مقاتلةً لاغیر وما التفتُّ الیه الا التفاتةً و اجبتُه اجابة فقط۔

ثلاثی مجرد سے اسم نوع کا وزن فِعْلَةً کے وزن پر آتا ہے، جیسے وقفَ وِقْفَةَ الاَسَدِ مشی مِشْیَةَ المختال۔ غیر ثلاثی کے علاوہ، دوسرے ابواب سے اسم مرۃ کے وزن پر جیسے حسن الانطاقة، قبیح المعاشرة۔

اسم مکان و اسم زمان

اسم مکان وہ ہے جس سے فعل کے واقع ہونے کی جگہ ظاہر ہو اور اسم زمان وہ ہے جو فعل کے وقوع ہونے کا وقت بتلائے۔

اسم مکان اور اسم زمان ثلاثی مجرد سے مَفْعَل کے وزن پر آتے ہیں، بشرطیکہ مضارع کا عین کلمہ مضموم یا مفتوح ہو، جیسے مَطْبَخ، مَذْبَح، لیکن اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو تو مَفْعِل کے وزن پر، جیسے: مَجْلِس، مَنْزِل۔ اس قاعدہ سے یہ دس الفاظ مستثنیٰ ہیں جو عین کی کسرہ سے آئے ہیں حالانکہ ان کے مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے: المَسْجِد، المَشْرِق، المَغْرِب، المَطْلِع، المَجْزِر، المَرْفِق، المَسْكِن، المَنْسِك، المَنْبِت، المَسْقِط

مثال سے اسم زمان و مکان ہمیشہ مَفْعِل کے وزن پر آتا ہے، جیسے: مَوْعِد، مَوْجِل، جبکہ ناقص سے ہمیشہ مَفْعَل کے وزن پر، جیسے: مَطْوَى، مَرْمَى۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مصدر میمی کی طرح آتا ہے جیسے أَخْدَعَ سے المُخْدَع اور أَدْخَلَ سے المُدْخَل۔

یہاں یہ جاننا چاہئے کہ کسی جگہ میں کسی چیز کی کثرت ظاہر کرنے کے لئے مَفْعَلَة کا صیغہ مقرر ہے۔ یہ وزن ثلاثی مجرد اور مزید فیہ سے قیاسی ہے، جبکہ بعض کے نزدیک بکثرت آتا ہے، مگر قیاسی نہیں۔ جیسے: مَأْبَلَة (جہاں اونٹوں کی کثرت ہو، مَفْعَاة (وہ جگہ سانپوں کی بہتات ہو) مَسْبَعَة (وہ جگہ جہاں درندے بہت ہوں)۔

اسم آلة

یہ کام کرنے کے آلہ یا اوزار کا نام ہے اور مشتق ہوتا ہے اور صرف ثلاثی مجرد متعدی سے بنتا ہے۔ اس قاعدہ سے مِصْفَاة، مِرقَاة اور مِزْمَار مستثنیٰ ہیں کیونکہ یہ صَفَا، رَقِيَ اور زَمَرَ سے ماخوذ ہیں اور یہ تینوں فعل لازم ہیں۔ اسم آلہ کے مندرجہ ذیل تین وزن ہیں

۱۔ مِفْعَل: جیسے مِبْرَد۔

۲۔ مِفْعَال: جیسے مِفْتَاح۔

۳۔ مِفْعَلَة: جیسے مِكْنَسَة۔

یہ اوزان بھی قیاسی نہیں۔ قاعدے کے خلاف الفاظ حسب ذیل ہیں۔ مُنْخُل، مُدْهُن، مُكْحُلَة، مُدُق، مُسْعُط، مَنَارَة، مُشْط۔ یہ الفاظ اسماء جامدہ کے مانند ہیں اور فعل سے اشتقاق کے بغیر ہیں۔ جو اسم آلہ فعل سے مشتق نہ ہو، اس کے لئے کوئی ضابطہ نہیں۔ یہ بہت سے مختلف اوزان پر آتے ہیں جیسے قُدُوم، سِكِّين، فَأْس۔

اسم فاعل و اسم مفعول

اسم فاعل وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل واقع ہو۔ یہ ثلاثی مجرد سے فاعِل کے وزن پر آتا ہے، جیسے: نَاصِر، ظَالِم، قَائِم۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ مضارع معروف کے وزن پر علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگانے اور ماقبل آخر کو کسرہ دینے سے بنتا ہے، جیسے: مُكْرِم، مُتَقَدِّم، مُدَحْرِج۔

اسم مفعول وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو، یہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے: مَضْرُوب، مَأْخُوذ۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگانے اور ماقبل آخر کو مفتوح کرنے سے بنتا ہے۔ جیسے: يُجَرِّدُ سے مُجَرَّد، يَسْتَخْرِجُ سے مُسْتَخْرَج۔

تنبیہ: قیاس کا تقاضا ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول میں سے ہر ایک اپنے فعل سے اخذ کیا جائے۔ فعل خواہ مجرد ہو خواہ مزید فیہ، لیکن کچھ الفاظ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں جیسے أَمْلَحَ سے ماحِل، اَيفَعَ سے يافع، اعشب سے عاشب، أَحَبَّهُ سے محبوب، أجَنَّه سے مجنون اور أَحَمَّهُ سے مَحْمُوم، أزْكَمَهُ سے مَزْكُوم، أَسَلَّهُ سے مَسْلُول، حالانکہ اصل میں کہنا چاہئے تھا: مُمْحِل و مُسَلّ (اس سے درمیانی الفاظ کا قیاس کرلیں)۔

۲۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اسم مفعول، مصدر میمی، اسم مکان اور اسم زمان ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ امتیاز معنوی قرائن سے ہوتا ہے۔

صفت مشبّہ

صفت مشبہ وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی حالت کا اثبات پایا جائے اور زمانہ کی قید سے آزاد ہو۔ بخلاف اسم فاعل جس میں زمانہ کی قید پائی جاتی ہے۔ ثلاثی سے اس کے اوزان سماعی ہیں، جیسے: حَسَن، كَرِيم، لَيِّن، سَهْل، صَعْب اگر فعل لون یا عیب یا حلیہ پر دلالت کرتا ہو تو اس کے لئے صفت مشبہ کا وزن افعل ہے، جیسے أسْوَد، اَعْرَج، أبْلَح اور ثلاثی مجرّد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے اور صرف ابواب لازمہ سے، جیسے: مُطْمَئِن، مُسْتَقِيم

اسم تفضیل:

اسم تفضیل وہ ہے جو بہ نسبت دوسرے موصوف کی صفت کی زیادتی پر دلالت کرے۔ اس کو افعل التفضیل بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ صفت مشبہ کا ایک وزن افعل بھی ہے۔ کسی فعل سے بنانے کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں:

۱۔ فعل ثلاثی ہو، رباعی وغیرہ سے نہ ہو۔

۲۔ صفت کا صیغہ افعل کے وزن پر نہ آتا ہو، یعنی لون، عیب یا حلیہ پر دلالت نہ کرتا ہو۔ اگر ایسا ہو تو اسم تفضیل افعل کے وزن پر آسکتا ہے، جیسے: هذا أَقْبَحُ من ذلك، أَشْنَعُ منه، کیونکہ ان کے صفت کے صیغے قبیح اور شنیع ہیں۔

۳۔ متصرف تام ہو، چنانچہ بئس سے ابأس نہیں کہا جاتا اور كان سے اكْوَن نہیں کہتے۔

۴۔ لازمی طور پر منفی نہ ہو، جیسے: ماعاج بالدواء اس نے دوا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا) یہ کلمہ ہمیشہ منفی استعمال ہوتا ہے۔ یا عارضی طور پر جیسے ماعلم زيدٌ (زید نے نہ جانا)۔

۵۔ مفاضلة کے لئے موزوں ہونا، چنانچہ فنی سے افنى اور ماتَ سے اموت نہیں کہا جاتا ہے۔

۶۔ معروف ہو۔

بعض الفاظ قاعدہ کے خلاف مجہول اور ابواب غیر ثلاثی سے آتے ہیں۔ جیسے مثلاً العود احمد میں احمد حُمِدَ سے اور حاتم اعطى من عَمرو میں اعطى سے اور هذا السِفر أَخْصر من ذاك میں اختُصِر سے۔

کبھی افعل التفضیل فعل کے بغیر آتا ہے جیسے ما بالبادية انْوأُ منه بمعنی اعلم بالانواء ہے۔ انوأُ نوء سے ماخوذ ہے جس کے معنی نچھتر کے ہیں۔

خیر اور شر دراصل اَخْيَر اور أشَرّ ہیں کثرت استعمال کی بنا پر دونوں سے ہمزے ساقط ہو گئے۔ کبھی اصل کے لحاظ سے ہمزہ کے ساتھ بھی آتے ہیں، یعنی کہا جاتا ہے أخير و أشرّ۔

وہ ابواب یا وہ مادے جن سے اسم تفضیل کا صیغہ اَفْعَلُ کے وزن پر نہیں آسکتا ان سے اسم تفضیل کے معنی کو ظاہر کرنے کے لئے قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اشد یا اکثر یا انہی جیسے الفاظ کے بعد اس باب کا مصدر منصوب استعمال کرتے ہیں جیسے اشدُّ سواداً، أشد استخراجا۔

اوزن مبالغة:

مبالغہ وہ ہے جو موصوف کی صفت کی زیادتی ظاہر کرے، مبالغہ کے مشہور تر وزن ۱۵ ہیں اور یہ ہیں:

۱۔	فَعَّالَ	جیسے	عَلَّام و نَصَّار	۹۔	فَعُول	جیسے	کَذُوب، وَدُود
۲۔	فَعَّالَة	جیسے	عَلَّامَة، فَهَّامَة	۱۰۔	فاعِلَة	جیسے	راوِية
۳۔	مِفْعَال	جیسے	مِكْسال، مِقْدام	۱۱۔	فُعُل	جیسے	غُفُل
۴۔	فِعِّيل	جیسے	سِكِّير، صِدِّيق	۱۲۔	فَعُولَة	جیسے	فَرُوقَة
۵۔	مِفْعِيل	جیسے	مِسْكِين، مِعْطِير	۱۳۔	مِفْعَل	جیسے	مِحْرَب
۶۔	فُعَلَة	جیسے	ضُحَكَة، ضُجَعَة	۱۴۔	فَاعُول	جیسے	فَارُوق
۷۔	فَعِل	جیسے	شَرِه، حَذِر	۱۵۔	فُعَّال	جیسے	كُبَّار
۸۔	فَعِيل	جیسے	رَحِيم، عظيم				

مبالغہ کے تمام اوزان سماعی ہیں اور صرف ثلاثی مجرد سے بنتے ہیں۔ خلاف قاعدہ اوزان مبالغہ درّاك، مِعطاء، مِهوان، مِحْسان، مِتلاف، مِمْلاق اور مِخلاف جو بالترتیب أدْرَكَ، أعْطى، اَهَانَ، اَحْسَنَ، اَتْلَفَ، أمْلَقَ و أخْلَفَ سے بنائے گئے ہیں۔ اور سَمِيع و نَذِير و زَهُوق ہیں جو بالترتیب اسمع، اَنْذَرَ و اَزْهَقَ سے بنے ہیں۔ آپ کے علم میں آنا چاہئے کہ بعض اوزان مبالغہ کے آخر میں تاء تاء تانیث نہیں ہوتی بلکہ مبالغہ کے معنی میں ہوتی ہے جیسے راوية میں یا مبالغہ میں زور ظاہر کرنے کے لئے ہوتی ہے جیسے مثلاً عَلَّامَة اور فَهَّامَة میں۔

۲۔ جب فعيل فاعل کے معنی میں ہو تو مذکر اور مؤنث میں فرق کیا جاتا ہے، خواہ موصوف ساتھ ہو یا نہ ہو جیسے رجل نصير و امرأة نصيرة و جاء نصير و نصيرة میں۔

۳۔ اگر فعيل مفعول کے معنی میں ہو اور موصوف بھی مذکور ہو تو مذکر و مونث یکساں ہوتے ہیں جیسے زيد قتيل و انت المرأةُ جريحٌ اور موصوف مذکور نہ ہو تو مذکر اور مؤنث میں فرق کیا جاتا ہے جیسے: جاء حبيب و حبيبة میں۔

۴۔ اگر فعول فاعل کے معنی میں ہو تو مذکر و مونث یکساں ہوتے ہیں یعنی مذکر لائے جاتے ہیں جیسے يوحنا البتول و مريم البتول میں (بتول جو شادی نہ کرے کے معنی میں ہے، حضرت مریمؑ اور حضرت فاطمہؓ کے لئے بتول کا لفظ لقب کے طور پر ہے) موصوف مذکور نہ ہو تو فرق کیا جاتا ہے جیسے جاءَ بتول و بتولة اگر یہ لفظ مفعول کے معنی میں ہو اور موصوف مذکور ہو یا نہ ہو تو مذکر و مؤنث میں فرق کیا جاتا ہے جیسے هذا رسول و تلك رسولة و جاء رسول و رسولة میں (یعنی یہ قاصد (بمعنی مُرْسَل) ہے وہ قاصدہ ہے۔ قاصد اور قاصدہ آئے۔

موصوف مذکر و مونث

مذکر اسم میں کسی علامت کی ضرورت نہیں جو اس کے مذکر ہونے پر دلالت کرے۔ لیکن مونث کی تین علامتیں ہیں جیسے تاء جیسے نعمة، قدرة

(۲) الف مقصورہ، جیسے عُذری و فُضلٰی (د) الف ممدودہ جیسے: سوداء، بیداء یہ تینوں علامتیں اسم کے آخر میں زائد ہوتی ہیں۔ ہر وہ اسم جس کے آخر میں ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ہو وہ مونث ہے، لیکن مردوں کے نام وہ مذکر ہی رہتے ہیں، خواہ ان کے ناموں کے آخر میں ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہو جیسے نخلة، ارطی، خضرا جو مردوں کے نام ہیں، مؤنث لفظی وہ ہے جس میں مؤنث کی علامت ہو، جیسا کہ اوپر بتایا جاچکا ہے۔

مؤنث معنوی وہ ہے جو مؤنث پر دلالت کرے اور اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو۔ جن اسماء کو مونث معنوی قرار دیا گیا ہے، چار ہیں۔

۱۔ عورتوں کے نام: جیسے: مریم، زینب

۲۔ وہ نام جو عورتوں سے مختص ہوں جیسے: اخت، اُمّ

۳۔ ملکوں، شہروں، قبیلوں کے نام جیسے: شام، مصر، قریش

۴۔ ایسے اعضاء کے نام جو دو دو ہوں جیسے: عین، رجل، اذن لیکن یہ حکم اکثری ہے، کیونکہ صدغ، مرفق، حاجب، خدّ، لحیۃ مذکر ہیں، حالانکہ یہ سب دو دو ہیں۔

لغت میں مؤنث معنوی کے ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں، جن میں سے بعض مذکورہ بالا ضوابط کے تحت نہیں آئے، یہ کثیر التعداد ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ہم ذیل میں ذکر کر رہے ہیں۔ اذن، ارض، ارنب، اصبع، افعی، بئر، جحیم، جهنم، حرب، دار، ذراع، رجل، رِحم، رَحَی، ریح، سقر (جهنم)، سن، ساق، شمس، شِمال، ضبُع، عروض، عصا، عَقِب، عین، فأس، فخِذ، فُلك، قَدَم، قوس، كأس، كتف، كرِش، كف، نار، نعل، ناب، ورك، يد، يمين پھر ہوا کے نام ہیں جیسے صبا، قبُول، جَنُوب، دبُور، شمال، هيف، حرور، سَمُوم وغیرہ۔

ان کے علاوہ کچھ اسماء ہیں، جن میں تذکیر و تانیث دونوں جائز ہیں۔ ان میں سے مشہور یہ ہیں:

إبْط، إزار، حال، حانوت، خَمر، دِرع، دَلْو، رُوح، زقاق، سبيل، سُرَى، سراويل، سِلاح، سِكّين، سِلم، سُلَّم، سماء، سُوق، صاع، ضُحىً، طِرس، طريق، عَجز، عضُد، عُقاب، عَقرَب، عُنُق، عَنكَبُوت، فردوس، فَرَس، فِهر، قِدْر، قَفًا، قميص، كبد، لِسان، مِسك، مِلح، مَنجنيق، مُوسىً، نَفس، وراء

ان الفاظ کے ساتھ حروف تہجی بھی ملحق ہیں۔

مثنّٰی

مثنّیٰ وہ لفظ ہے جو دو کی نمائندگی کرے اور یہ وزن اور حرف میں مطابقت رکھتے ہوں اور اضافہ عطف و معطوف کا قائم مقام ہو۔ کسی اسم کو مثنیٰ بنانا ہو تو اس کے آخر میں حالت رفعی میں الف اور حالت نصبی و جری میں یاء ما قبل مفتوح اور دونوں حالتوں میں نون مکسور زیادہ کریں۔ جیسے جاء الرجلان و رأيت الرجلين و مررت بالرجلين

اگر کوئی عَلَم مرکب اضافی ہو تو جزء اول یعنی مضاف کو مثنیٰ لائیں گے جیسے عبدا المَلِك اگر مرکب بنائی یا مرکب اسنادی ہو تو اپنی حالت پر رہیں گے اور ان سے پہلے مذکر میں ذوا اور مونث میں ذواتا لائیں گے، جیسے ذوا معدی کرب و ذواتا بعلبك کچھ اسماء ایسے ہیں جن کا تثنیہ نہیں مثلاً: بعض، اجمع، جمعاء، كل، واحد و عُرَيب و دَيّاد اور اسماء عدد اور اسم تفضیل جنہیں من سے استعمال

کیا گیا ہو جیسے الیدان افضل من الرِجلین۔

اسم منقوص کا تثنیہ

اسم منقوص وہ اسمِ معرب ہے جس کا آخر یا ماقبل مکسور ہو جیسے القاضِی میں اگر یاء حذف ہوگئی ہو تو تثنیہ کی حالت میں پھر لوٹ آئے گی، جیسے رامٍ سے رامیان، داعٍ سے داعیان ہیں۔

اسم مقصور کا تثنیہ

اسم مقصور وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف ہو اور اس کے بعد ہمزہ نہ ہو، یہ الف یا تو تیسرا ہو یا چوتھا یا اس کے اوپر۔ اگر الف تیسری جگہ ہو اور کسی سے بدل کر آیا ہو تو تثنیہ میں اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا جیسے رجا رجوَانِ اور فتًی فتَیان۔ اگر چوتھی جگہ یا اس سے بھی اوپر ہو تو یا سے بدل جائے گا۔ جیسے ذِکریَانِ لیکن قھقرانِ و خوَزلانِ خلاف قیاس ہیں۔ قیاس قھقریان اور خوزلیان ہے، یعنی الف کو یاء سے بدل کر۔

اسم ممدود کا تثنیہ

ممدود وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں ہمزہ ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ ہو۔ اگر اس کا ہمزہ تانیث کیلئے ہو۔ جیسے خضراء تو واؤ میں بدل جائے گا اور کہا جائیگا خضراوان بشرطیکہ الف سے پہلے واؤ نہ ہو جیسے عشواء تو ہمزہ کا باقی رکھنا ضروری ہے تاکہ دو واؤ جمع نہ ہو جائیں جیسے عشواء سے عشواء ان

اگر ممدود کا ہمزہ اصلی ہو تو اس وقت بھی اس کا باقی رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ کہیں گے لأ لاء لأ لا ء ان، قراء قُرّاء ان

اگر ممدود کا ہمزہ نہ تو اصلی ہو اور نہ مونث کا تو دونوں صورتیں جائز ہیں، جیسے سماء سماء ان و سماوان

ان اسماء کا تثنیہ جن کا لام کلمہ محذوف ہو۔

جب ایسے اسماء جن کا تثنیہ بنانا ہو اور ان کا لام کلمہ محذوف ہو اور اس کے عوض میں کچھ نہ ہو تو محذوف لام کلمہ واپس آجائے گا۔ جیسے اب کہ اصل میں ابو تھا اسے تثنیہ میں ابوان کہیں گے۔ اسی طرح اخوان و حموانِ و غلوان لیکن فم اور ید میں تثنیہ یدان و فمان ہوگا، واؤ واپس نہیں آئے گا۔

ایسے اسماء جن کے محذوف کے عوض میں کچھ ہو تو تثنیہ اپنی حالت پر بنایا جائے گا مثلاً سنة، ابن اسم میں سنتان، ابنان اور اسمان کہیں گے۔

جمع :

جمع مذکر سالم: وہ ہے جس کے آخر میں حالت رفعی میں واؤ ماقبل مضموم ہو یا حالت نصبی و جری میں یاء ماقبل مکسور ہو پھر ان کے بعد ن مفتوحة ہو۔ جیسے مسلمون (حالت رفعی میں) مسلمین (حالت نصبی و جری میں)۔

یہ جمع کسی شخص کے عَلَم کے سوا نہیں آتی۔ اس میں یہ شرط ہے کہ وہ تاء تانیث سے خالی ہو، مفرد ہو مرکب نہ ہو۔ چنانچہ ایسی جمع مثال کے طور پر طلحة کی نہیں بنائی جائے گی، اگرچہ وہ ایک مرد کا عَلَم (نام) ہے۔ کیونکہ اس میں تاء تانیث پائی جاتی ہے۔ بلکہ جمع مونث سالم بنائی جائے گی، نہ ہی معدی کرب، عبدالملک تابط شراً کی جمع مذکر سالم لائی جائے گی بلکہ ایسا عَلَم اپنے لفظ پر مبنی رہے گا اور اس سے پہلے ذوو لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ذوو معدی کرب، ذوو تابّط شراً یعنی اس نام والے۔

کچھ ایسے اسماء ہیں جن میں یہ شرطیں نہیں پائی جاتیں مگر جمع مذکر سالم کے وزن پر ان کے جمع آتی ہے۔ مثلاً ارضون، عالمون، عِلّیون و اهلون و بنون، سنون اور اسی طرح ہر وہ کلمہ ثلاثی جس کا لام کلمہ حذف کر دیا گیا ہو اور اس کے عوض میں تاء تانیث لایا گیا ہو اس کی جمع واؤ نون سے آتی ہے۔ جیسے عِضُون، ثُبُون، مِئُون، عضة، ثبة اور مائةٌ کی جمعیں ہیں۔

جمع مؤنث سالم

جمع مؤنث سالم وہ ہے، جس کے آخر میں الف اور تاء مبسوطہ (ت) بڑھائی جائے۔ جیسے ثمرات، شجرات۔ اگر مفرد کے آخر میں پہلے ہی سے تاء ہو تو جمع بناتے ہوئے اسے حذف کر دیتے ہیں اور اس کا حذف تکسیر نہیں سمجھا جاتا۔

اس وزن پر مندرجہ ذیل اسماء کی جمع آتی ہے۔

۱۔ ہر وہ اسم جس کے آخر میں تاء تانیث ہو جیسے شجرات (شجرة سے) امراة، شاة، قلّة، اَمَة، ملّة، شَفَة اس سے مستثنیٰ ہیں۔

۲۔ ہر وہ اسم جو مؤنث کا عَلَم ہو جیسے مریمات (مریم سے)

۳۔ ہر وہ اسم جو مصدر ہو اور تین حروف سے زائد ہو، جیسے تعریفات، امتیازات۔

۴۔ ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف تانیث ہو، مقصورہ ہو یا ممدودہ جیسے صحراء سے صحراوات، حمّٰی سے حمّیات

ان اسماء مقصورۃ یا ممدودہ میں الف کی تبدیلی یا بقاء کے متعلق وہی صورتیں اختیار کی جائیں گی جن کا ذکر مثنّٰی میں ہو چکا۔

ان مذکورہ بالا کے علاوہ اسماء میں اس وزن پر جمع کا آنا سماعی ہے جیسے سماوات، ارضات، سجلاّت، حمّامات، سُرادقات، شمالات و امهات۔

عجمی اسماء میں سے بعض کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے جیسے تلغرافات اور بعض کی جمع جمع :مکسّر آتی ہے جیسے أساكل، قناصل، بطاركة و كرادلة۔

تنبیہ: اگر کلمہ ثلاثی ہو اور اس کا عین کلمہ صحیح اور فَعْل اور فَعْلَة کے وزن پر ہو تو جمع بناتے ہوئے عین کلمہ کو فتحہ دینا ضروری ہے، جیسے ثَمْرة سے ثَمَرات، رَحْمة سے رَحَمات۔

اگر فِعْل یا فُعْل کے وزن پر ہو تو فتحہ، دینا، ساکن رکھنا اور فا کلمہ کی حرکت جیسی حرکت دینا بھی جائز ہے۔ جیسے كِسْرة سے كِسَرات، كِسْرات و كِسِرات، حُجْرة سے حُجُرات و حُجَرات و حُجْرات۔

اگر کلمہ اجوف ہو تو عین کلمہ جمع کی صورت میں ہمیشہ ساکن رہے گا۔ خواہ فا کی حرکت کیسی ہی ہو جیسے جَوْزة سے جَوْزات، بِيْعة سے بيعات

اگر ناقص ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحیح کا ہے جیسے رَمْية سے رَمَيات، رُقْوة سے رُقُوات و رُقَوات و رُقْوات، اگر فا کلمہ مکسور اور لام کلمہ واوی ہو تو صرف فتحہ دینا اور ساکن رکھنا جائز ہے، فا کا ہمشکل بنانا جائز نہیں۔ جِرِوات شاذ ہے، اس طرح اگر فا مضموم ہو اور لام یائی ہو تو بھی مذکورہ بالا دونوں صورتیں ہوں گی اتباع جائز نہ ہوگا۔

اگر کلمہ مدغم ہو تو جمع بناتے ہوئے تو فك ادغام نہیں ہوگا جیسے ضمّة سے ضمّات اور عزّة سے عزّات

جمع مکسّر:

جمع مُکسّر وہ ہے، جس میں واحد کا وزن قائم نہ رہے۔

اس کی تین صورتیں ہیں، (۱) حرکت کی تبدیلی جیسے اَسَد سے اُسُد (۲) ایک حرف کی تبدیلی جیسے رَسُول سے رُسُل (۳) زیادتی سے جیسے رَجُل سے رِجال جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں: (۱) جمع قلت جمع کثرت جمع قلت وہ ہے جس سے تین سے دس تک کی تعداد ظاہر ہو اس کے چار وزن ہیں:

۱۔ اَفْعَال: جیسے اظفار جو ظُفُر کی جمع ہے۔
۲۔ اَفْعُل: جیسے اَنْفُس جو نَفْس کی جمع ہے۔
۳۔ اَفْعِلة: جیسے اَرْغِفَة جو رغیف کی جمع ہے۔
۴۔ فِعْلَة: جیسے فِتْيَة جو فتًی کی جمع ہے۔

اَفْعال اور اَفْعُل کی دوبارہ جمع سے دوسری جمع جمع کثرت بن جاتی ہے۔ افعال کی جمع افاعیل ہے جیسے اظفار سے اظافیر جبکہ اَفْعُل کی جمع اَفاعِل کے وزن پر ہے۔ جیسے اَضْلُع کی جمع اَضالِع۔ افاعیل اور افاعل کو منتهي المجحوع کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ اس صیغہ سے مراد تمام وہ اوزان ہیں جن میں الف جمع کے بعد دو حرف متحرک ہوں جیسے مساجد، منابر یا تین حروف ہوں اور درمیانی یاء ساکن ہو۔ جیسے قنادیل و مصابیح۔

تنبیہ: جمع قلت پر الف استغراقی داخل ہو (الف استغراقی وہ ہوتا ہے، جس کی جگہ کل کا لفظ استعمال کیا جا سکے) یا ایسی چیز کی طرف اضافت ہو جو کثرت پر دلالت کرے تو جمع قلت کثرت کا فائدہ دیتی ہے جیسے یا ایها الشیوخ لاتکونوا کالفتیه، احفظوا انفسکم، جمع کثرت وہ ہے جو تین اور اس سے اوپر ناختم ہونے والی تعداد پر دلالت کرے۔

سعد تفتازانی: کا کہنا ہے کہ جمع قلت تین سے دس تک ہے اور جمع کثرت تین سے ناختم ہونے والی تعداد ہے فرق انتہاء کی حیثیت سے ہے۔

جمع سالم کی دونوں قسمیں بعض کے نزدیک جمع قلت کے لئے ہیں اور بعض کے نزدیک مطلق جمع ہے اور ان میں قلت یا کثرت کا کوئی لحاظ نہیں بلکہ دونوں کے لئے مفید ہیں۔

آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہر وہ جمع جس کا صرف ایک وزن ہو اس کا اطلاق قلت و کثرت دونوں پر ہوتا ہے۔ جیسے ارجل، اعناق، افئدة جو رِجل، عُنُق اور فؤاد کی جمع ہیں۔

جمع کثرت کے اوزان:

جمع کثرت کے اوزان تو بہت ہیں لیکن ان میں سے صرف دس قیاسی ہیں، جو حسب ذیل ہیں:

۱۔ فُعَل: فُعْلَة کی جمع جیسے غُلَب، صُوَر، صُرَر جو غُلْبَة، صُوْرة اور صُرَّة کی جمع ہیں۔

۲۔ فِعَل: فِعْلَة کی جمع جیسے قِطَع جو قِطْعَة کی جمع ہے، لیکن کبھی فِعْلة کی جمع فُعَل کے وزن پہ بھی آتی ہے جیسے لُحَی لِحْيَة کی جمع اور حُلَی حِلْيَة کی جمع ہے۔

۳۔ فَعَالِل ہر رباعی مجرد کی جمع جیسے بَلابِل، حنادِس جو بُلْبُل اور حِندِس کی جمع ہیں۔ نیز یہ خماسی مجرد اور مزید فیہ کی جمع کا وزن بھی ہے، جیسے سفرجل کی جمع سفارج اور خَنْدِریس کی جمع خَنادِرس۔

۴۔ فَوَاعِل: ہر ثلاثی کی جمع جس کے فاکلمہ کے بعد واو یا الف کی زیادتی ہو، جیسے جَوَاهِر، خَوَاتِم جو جَوْهَر اور خَاتَم کی جمع ہیں۔

۵۔ فَعَائِل: ثلاثی کی جمع جس کا تیسرا حرف مدہ ہو جیسے صحائف، رسَائل جو صحیفة و رسالة کی جمع ہیں۔

۶۔ أَفَاعِل افعل (بتثلیث الهمزه) کی جمع جیسے اِصبَع کی جمع اَصَابع، انمُلة کی جمع انَامِل اور أَجدَل کی جمع اَجَادِل۔

۷۔ أَفَاعِيل أُفْعُول یا أُفعُوله کی جمع جیسے اراجیز، اسالیب جو ارجوزه اور اُسلُوب کی جمعیں ہیں۔

۸۔ فَعالیل ہر رباعی کی جمع جس کے آخر سے پہلے حرف مدہ ہو جیسے قراطیس، عصافیر جو قرطاس اور عصفور کی جمع ہیں۔

۹۔ مَفَاعِل مِفعَل اور مِفعَلة کی جمع جیسے مَبَاضِع، مَكَانِس جو مِبضَع اور مِكنَسة کی جمع ہیں۔

۱۰۔ مَفَاعِيل مِفعَال، مِفعِيل اور مَفعُول کی جمع جیسے مَفَاتِيح، مَسَاكِين، مَقَادِير جو علی الترتیب مِفتاح، مِسكين اور مقدور کی جمعیں ہیں۔

اسم الجمع و شبه الجمع

اسم جمع وہ ہے جس میں جمع کا معنی ہو اور اس کا اسی لفظ سے مفرد نہ آتا ہو۔ جیسے خیل، جمع، قوم، جیش

شبہ جمع وہ ہے جو جمع کے معنے رکھتا ہو اور واحد کا فرق تاء سے ہو جیسے وَرَق و ثَمَر کیونکہ مفرد ورقة اور ثَمرة ہیں۔ اسی قبیل سے ہے جس کے واحد اور جمع میں یائے نسبتی کی وجہ سے فرق ہو جیسے الرومي الروم کا واحد ہے اور المجوسي المجوس کا مفرد ہے۔

لیکن پہلا غیر ذوی العقول کے لئے ہے اور دوسرا ذوی العقول کے لئے۔ ہر اسم جمع اور شبہ جمع کی جمع مفردات کے طرز پر آتی ہے جیسے قوم: کی جمع اقوام: ثوب کی اثواب، رفقه کی جمع رفق، غرفة کی جمع غرف، نجم کی انجم، نفس کی انفس روم کی اروام، نار کی انوار،

صفت

صفت وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی وصف ہے۔ اس کی پانچ قسمیں ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، افعل تفضیل اور اوزان مبالغہ۔

صفت کی تانیث: صفت کے صیغہ کو اگر مؤنث بنانا ہو تو اس کے آخر میں تاء لگائیں جیسے صادق سے صادقة، کاذب سے کاذبة، لیکن وہ صفت جو فَعْلان، أَفْعَل، افعل تفضیل کے وزن پر ہو اس کے مؤنث بنانے کے احکام مخصوص ہیں۔

۱۔ فعلان کے وزن پر صفت اس کی مؤنث فَعْلَى کے وزن پر آتی ہے، جیسے عطشان سے عَطْشَى، سَكْران سے سَكْرَى، ظَمْآن سے ظَمْأَى، اس قاعدہ کے خلاف اَلْيَان، حَبْلان، خَصْمَان، دَخْنَان، سَخْنَان، صَوْجَان، قَشْوان، مَسَّان، مَوْتَان، نَدْمَان، نَصْران کی مؤنث تاء کے ساتھ آتی ہے۔ فعلان وزن کی کچھ صفات کی مونث فَعْلَى کے وزن پر یا تاء لگانے سے آتی ہے، جیسے عطشان کی مونث عطشى یا عطشانه اور غضبان کی مونث غَضْبَى یا غَضْبَانَة

۲۔ افعل وزن کی صفت کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آتی ہے، جیسے ابیض کی بیضاء اور اسمر کی سمراء

۳۔ افعل تفضیل کی مؤنث فُعْلَى کے وزن پر آتی ہے الاکرم کی مونث الكُرْمَى اور الاصغر کی الصغْرَى لیکن اگر کلمہ ناقص واوی ہو تو واؤ کو یاء سے بدل دیتے ہیں جیسے أحلَى سے حُلْيَا اور ادْنَى سے دُنيا

کچھ ایسی صفات بھی ہیں جن میں مذکر و مؤنث یکساں ہے۔ یہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ فَعَّالَة جیسے رجلٌ فَهَّامَة، امرأة فَهَّامَة۔

۲۔ مِفعَال جیسے: رجلٌ مِفضَال و امرأةٌ مِفضَال۔ (مِیقَانة شاذ ہے)

۳۔ مِفعِیل جیسے: رجلٌ مِعطِیر و امرأةٌ مِعطِیر (مِسکِینَة شاذ ہے)

۴۔ مِفعَل جیسے: رجلٌ مِغشَم و امرأةٌ مِغشَم

۵۔ فُعلَة و فُعَلَة جیسے: ضُحکَة (بہت ہنسنے والا)، هُمَزَة (بہت عیب لگانے والا) هُزءَة و بہت ٹھٹھا کرنے والا)۔

۶۔ فعول فاعل کے معنی میں اور فعیل مفعول کے معنی میں اس وقت آتا ہے جب موصوف مذکور ہو جیسے رجُل صبور، امرأة صبور، غلام قتیل، امراۃ قتیل (عدوّة شاذ ہے)

اگر موصوف مذکور نہ ہو، تو تاء سے فرق کرنا چاہئے۔ کبھی موصوف مذکور ہونے کے باوجود فعیل مؤنث بالتاء آتا ہے، جیسے: خَاتِمَةٌ سعیدة، عاقبة حمیدة۔

کبھی فعیل فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کے آخر میں تاء نہیں لگائی جاتی: جیسے امرأة عقیم اور یحی العظام و هی رمیم میں۔

وہ صفات جو عورتوں سے خاص ہوں اور حدوث کا معنی مقصود نہ ہو تو عموماً آخر میں تاء نہیں آتی جیسے طالِق، مُرضِع، حامل۔ اگر یہ مقصود ہو تو تاء آتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے: ارضعت فهي مُرضِعَة (عورت کا بچہ کے منہ میں پستان ڈال کر دودھ پلانا صفت مُرضِعَة)

صفت تانیث

صفت ذوی العقول کے لئے جو خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث تو صفت کی جمع، جمع سالم لائی جاتی ہے، جیسے رجالٌ صادقون، نساء صادقات، لیکن جو صفت أَفعَل فَعلَاء اور فَعلَان فَعلَی کے وزن پر ہو یا اسم فاعل ناقص سے ہو اور فعیل مفعول کے معنی میں ہوں اور اس کے مطابق، تو ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک مخصوص حکم ہے، جیسا کے ذیل میں ہے:

۱۔ جب صفت أَفعَل فعلاء کے باب سے ہو تو اس کی جمع فُعْل کے وزن پر آتی ہے، جیسے: أُحمَر کی جمع حُمر، أَعْرَج کی جمع عُرْج، لیکن اگر کلمہ اجوف یائی ہو تو فا کو جمع میں کسرہ دیا جاتا ہے جیسے أَغیَد، أَبیَض اور أَهیَف کی جمع غِید، بِیض اور هِیف میں،

۲۔ جب صفت باب فَعلَان فَعلَی سے ہو اس کی جمع فُعَالَی یا فِعَال کے وزن پر آتی ہے۔ جیسے سُکَارَی و حُیارَی و جِیَاع و غِضَاب جو سکران، حیران، جوعان اور غضبان کی جمع ہیں۔

۳۔ اسم فاعل ناقص کی جمع فُعَلَة کے وزن پر آتی ہے جیسے رُمَاة و غُزَاة جو الرامی و الغازی کی جمع ہے اور رماة دراصل رُمَیَة اور غُزَاة غُزَیَة ہے۔

۴۔ جو مادہ ہلاکت، درد یا تشتت کے معنی پر دلالت کرے اس سے فعیل بمعنی مفعول فَعْلَی کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے جَرِیح جمع جَرْحَی، صَرِیْع جمع صَرْعَی و شتیت جمع شتّی۔

• فعیل بمعنی فاعل جو معنی میں اس سے مشابہت رکھتا ہو اس سے مربوط کیا جاتا ہے جیسے مَرِیض جس کی جمع مَرْضَی ہے اور اگر فَعِل کے وزن پر ہو جیسے زَمِن جس کی جمع زَمْنَی ہے اور اگر فَاعِل کے وزن پر ہو جیسے هَالِك جس کی جمع هَلْكَی ہے (مریضة کی جمع آج کل مریضات بھی مستعمل ہے)۔

صفات کی جمع کے باقی قیاسی اوزان چھ ہیں اور وہ فُعَّال، فَعَلَة و فُعَّل و فَوَاعِل و فُعَلاء اور أَفعِلاء ہیں۔

۱۔ فُعَّال اور فَعَلَة اس اسم کی جمع ہیں جو فاعل کے وزن پر ہو اور اس کا لام کلمہ صحیح ہو جیسے: زُوَّار جو زائِر کی جمع ہے اور صُوَّام جو صائِم کی جمع ہے اور کَتَبَة جو کاتِب کی جمع ہے اور ظَلَمة جو ظالِم کی جمع ہے۔

عموماً فَعَلَة اجوف سے فاعل کی جمع کے لئے آتا ہے جو کسی پیشے پر دلالت کرتا ہو جیسے سَاقَة، باعَة حاکَة (جو اصل میں سَوَقَة، بَيَعَة اور حَيَكَة ہیں)۔ ان کے واحد علی الترتیب سائق، بائع اور حائك ہیں۔

۲۔ فُعَّل بھی فاعِل کی جمع ہے جیسے: سُجَّد، نُوَّم اور جُوَّع جو بالترتیب ساجد، نائِم اور جائع کی جمعیں ہیں۔

۳۔ فَواعِل فاعِلة کی جمع ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے: صواحب، ضَوارِب جو بالترتیب صاحبة اور ضارِبة کی جمعیں ہیں۔ فَوَاعِل کے وزن پر اس فاعل کی جمع بھی آتی ہے جو عورتوں کی صفات کے لئے ہو جیسے عَوَاقِر، حَوَامِل، طَوَالِق جو بالترتیب عاقر، حامل اور طالِق کی جمع ہیں۔

۴۔ فُعَلاء فعيل بمعنی فاعل کی جمع ہے، جیسے: کُرَمَاء، عُلَمَاء جو کریم، علیم کی جمعیں ہیں)۔

۵۔ أَفعِلاء مضاعف یا معتل اللام سے فعیل کے وزن پر صفت کی جمع ہے، جیسے: غَنِّی کی جمع اغنیاء اور قَوِیّ کی جمع اَقْوِیَاء ہے۔

اسم تفضیل کی جمع سالم ہوتی ہے، جیسے اعظم کی جمع اعظمون، اکرم کی جمع اکرمون، اور جمع مکسّر افاعِل کے وزن پر بھی آتی ہے، جیسے اَصَاغِر اور أَکَابِر جو اَصْغَر اور اکبر کی جمع ہیں)۔

مونث اسم تفضیل (فُعْلَی) کی جمع سالم فُعْلَیَات کے وزن پر آتی ہے جیسے عُظْمَیَات و کُرمَیات اور جمع مکسّر فُعَل کے وزن پر بھی آتی ہے جیسے الصُّغَر و الکُبَر۔

صیغه منتهی الجمع کی جمع سالم آتی ہے جیسے ضوارِبات جو ضوارب کی جمع ہے اور اَفاضِلُون جو افاضِل کی جمع ہے۔

نسبت

کسی چیز کی طرف نسبت ظاہر کرنے کے لئے اسم کے آخر میں یاء مشدد لگانے کا نام نسبت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یاء کے ماقبل مناسبت کی وجہ سے کسرہ دیا جائے، جیسے رجُلٌ لبنانیٌّ۔

اگر منسوب الیہ اسم ثلاثی مکسور العین ہو تو نسبت کرتے وقت تو اس کے عین کلمہ کو فتحہ دیا جائے گا چنانچہ فَخِذ میں فَخَذِیّ اور مَلِك میں مَلَکِیّ کہا جائیگا۔

اگر اسم منسوب الیہ رباعی مکسور العین ہو تو فصیح یہ ہے کہ اس کے عین کلمہ پر کسرہ باقی رہے جیسے مشرق میں مشرقیّ، مغرب میں مَغْرِبی اور یثرِب میں: یثرِبی

اگر کسی ایسے اسم کی طرف نسبت کی جائے جس کے آخر میں تائے تانیث ہو تو اس کا حذف کرنا لازمی ہے جیسے ناصِرَة سے ناصِرِیّ۔

اگر اسم کے آخر میں تیسرا حرف الف مقصورہ ہو تو نسبت کرتے وقت اسے واو سے بدل دیا جائے گا، جیسے عَصَا سے عَصَوِیّ، فتًی سے فَتَوِیّ،

۲۔ اگر چوتھا حرف ساکن ہو اور اصلی ہو تو اکثر اسے واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے مَرْمَی سے مَرْمَوِیّ اور حذف بھی جائز ہے چنانچہ مَرْمِیّ بھی کہہ سکتے ہیں۔

اگر زائد ہو خواہ تانیث کے لئے ہو یا الحاق کے لئے ہو تو حذف کا اختیار ہے اور حُبْلِیّ اور ذِفْرِیٌّ کہا جائے گا مگر اسے واؤ سے بدل کر

حُبْلَوِیّ اور حُبْرَوِیّ کہنا بھی جائز ہے۔ لیکن جب الف تانیث واو سے بدل جائے تو اکثر اس سے پہلے الف بڑھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے طُوبَاوِیّ اور دُنیاوِیّ۔

۳۔ اگر الف مقصورہ ایسے اسم میں واقع ہو جس کا دوسرا حرف متحرک ہو تو حذف کر دیا جاتا ہے اور بَرَدَی میں مثلاً کہا جاتا ہے بَرَدِیّ (بَرَدَی میں اسم مقصور حذف کر دیا گیا ہے) اسی طرح اگر چار سے اوپر ہو تو مُصْطَفَی میں مُصْطَفِیّ کہا جائے گا۔ بعض کے نزدیک اس کا واو سے بدلنا بھی جائز ہے مُصْطَفَوِیّ بھی درست ہے۔

آخر میں الف تانیث ممدودہ والے اسم کی طرف نسبت دینے کا قاعدہ۔

۱۔ جب الف ممدودہ تانیث کے لئے ہو تو واو سے بدل دیا جائے گا، جیسے صفراء کی طرف نسبت میں کہا جائے گا صَفْرَاوِیّ۔

۲۔ اگر وہ اصلی ہو تو اس کا باقی رکھنا ضروری ہے، چنانچہ قرّاء سے نسبت کیلئے کہیں گے قرّائی اور ابتداء سے نسبت دینے کے لئے ابتدائی کہا جائے گا۔

۳۔ اگر اصلی نہ ہو تو اس کا باقی رکھنا اور واو سے بدلنا جائز ہے۔ جیسے رداء سے ردائی یا رِدَاوِیّ، سماء سے سَمَائِی و سَمَاوِیّ لیکن شاء میں مسموع صرف شَاوِیّ ہے۔

اسم منقوص کی طرف نسبت کرنے کا قاعدہ

۱۔ اگر اسم منقوص کی یاء تیسری جگہ ہو تو واو سے بدل جائے گی اور اس سے ماقبل کو فتحہ دیا جائے گا جیسے عم سے عَمَوِیّ

۲۔ اور اگر چوتھی جگہ یا اس سے زائد جگہ پر ہو تو اس کا حذف جائز ہے۔ جیسے قاضٍ سے قاضِیّ اور ماضٍ سے ماضِیّ اور واؤ سے بدلنا بھی جائز ہے اور اس وقت اس کا ماقبل مفتوح ہوگا اور کہا جائے گا قَاضَوِیّ، ماضَوِیّ۔

۳۔ لیکن اگر پانچویں یا اس زیادہ جگہ پر ہو تو اس کا حذف ضروری ہے، چنانچہ المستعلی سے نسبت مستعلیّ اور المعتدی سے نسبت مُعْتَدِیّ ہوگی۔

وزنِ فعیل کی طرف نسبت کا قاعدہ

اگر کلمہ فعیل کے وزن پر ہونے کے ساتھ اس کے آخر کا حرف صحیح ہو تو یہ وزن اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ جیسے مسیح سے مسیحیّ، صلیب سے صلیبی اور حدید سے حدیدیّ میں۔

لیکن اگر فعیل ناقص ہو تو اس دو یاؤں میں سے ایک حذف کر دی جائیگی اور دوسری واؤ سے بدل دی جائے گی اور اس سے ماقبل کو فتحہ دیا جائے گا چنانچہ غنیّ سے نسبت کیلئے کہیں گے غَنَوِیّ اور عَلِیّ سے نسبت کے لئے کہیں گے عَلَوِیّ

وزنِ فعلیة کی طرف نسبت کا قاعدہ۔

فَعِيْلَة کی طرف نسبت دینے کے لئے، اگر وہ مضاعف یا معتل نہ ہو یاء حذف کر کے ماقبل کو فتحہ کے ساتھ مدینة کی طرف نسبت میں مَدَنِیّ کہا جائے گا اور فریضة کی طرف نسبت میں کہا جائے گا فَرَضِیّ جبکہ بعض الفاظ میں یاء کا باقی رہنا شاذ ہے) جیسے طبیعی و سلیقیّ میں۔

اگر مضاعف اور معتل العین ہو تو کچھ حذف نہ ہوگا چنانچہ طویلة سے نسبت ظاہر کرنے کے لئے کہا جائیگا طَوِیلِّی اور عزیزة سے نسبت کے لئے کہا جائے گا عَزِیزی۔

فُعَیل و فُعَیلَة کی طرف نسبت کا قاعدہ۔

فَعِیل اور فعیلة کی طرف نسبت کا جو طریقہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔فُعَیل اور فُعَیلة کی طرف نسبت کا بھی وہ قاعدہ ہے۔چنانچہ عُقَیل کی طرف نسبت کے لئے کہیں گے عُقَیلیّ، قُصَیّ کی طرف نسبت کے لئے قُصَوِیّ، قُلَیلة کی طرف نسبت کے لئے قُلَیلیّ اور اُمَیمَة کی طرف نسبت کے لئے اُمَیمِیّ

ایسے اسم کی طرف نسبت کا قاعدہ جس کے آخر میں واو ہو

اگر کسی اسم کے آخر کی واوَ چوتھی جگہ یا اس سے اوپر کی جگہ پر ہو اور اس سے ماقبل پر ضمہ ہو تو نسبت کرتے ہوئے واو حذف کر دی جائے گی۔ اور قَلَنسُوَة کی طرف نسبت کرتے ہوئے قَلَنسِیّ اور ترقُوَة کی طرف نسبت کے لئے تَرقِیّ کہا جائے گا اور اگر ایسا نہ ہو تو واوَ باقی رہے گا اور عدوّ کی طرف نسبت کے لئے عدَوِیّ اور دَلْو کی طرف نسبت کے لئے دَلْوِی کہا جائے گا۔

آخر میں یاء مشدّد والے اسم کی طرف نسبت کا قاعدہ۔

۱۔ جب یاء مشدّدہ پر ختم ہونے والے اسم سے پہلے دو سے زائد حرف ہوں تو یاء مشددہ کا حذف ضروری ہے۔شافعیّ کی طرف نسبت کے لئے کہا جائے گا شافعیّ اور اسکندریة کی طرف نسبت کے لئے کہا جائے گا۔اسکندریّ

۲۔ اگر یاء سے پہلے ایک ہی حرف ہو جیسے حیّ میں تو دوسرے حرف کو فتحہ دینا اور تیسرے کو واوَ سے بدل دینا ضروری ہے چنانچہ حیّ کی طرف نسبت میں حَیَوِیّ کہا جائے گا۔اگر دوسرا حرف واوَ سے بدلا ہوا ہو تو وہ لوٹایا جائے گا اور طیّ کی طرف نسبت میں طوَوِیّ کہا جائے گا۔

ایسے اسم کی طرف نسبت کا قاعدہ جس کا کوئی حرف محذوف ہو

۱۔ اگر کسی کلمہ کا آخری حذف ہو گیا ہو اور محذوف منه میں دو حرف باقی ہوں تو اس محذوف کو واپس لایا جائے گا جیسے اب سے نسبت کے لئے ابویّ اور اخ سے نسبت کے لئے اخویٌّ کہا جائے گا۔جہاں تک اخت اور بنت کا تعلق ہے تو ان کی طرف نسبت میں تاء برقرار رہے گی اور اختیّ و بنتیّ کہا جائے گا۔بعض تاء کو حذف کر کے کہتے ہیں اخویّ و بنویّ لیکن ابنة میں ابنیّ اور بنَوِی کہا جاتا ہے۔

۲۔ یدٌ و دمٌ جیسے الفاظ میں محذوف لوٹانا جائز ہے اور فصیح تر ہے۔اس وقت اگر وہ یاء ہو تو واوَ سے بدل دی جائے گی اور کہا جائے گا یدویّ، دمویّ ۔اور لفظ بدلے بغیر بھی نسبت کرنا جائز ہے،اس صورت میں کہا جائے گا یدیّ، دمیّ ۔

اگر کسی کلمہ میں محذوف کے عوض میں ہمزہَ وصل لایا گیا ہو جیسے ابن اور اسم میں،تو ہمزہ کو حذف اور محذوف لوٹا کر بنَوِیّ اور سمَوِیّ کہنا جائز ہوگا۔اور لفظ پر ہی نسبت کرنا بھی جائز ہے۔اسی صورت میں کہا جائے گا۔ابنیّ، اسمیّ ۔

اگر محذوف کے بدلے میں تاء تانیث ہو تو تاء تانیث حذف کی جائے گی اور محذوف لوٹایا جائے گا اور سنة، لُغَة میں سنوی اور لُغَوِیّ اور زِنة اور صِلَة میں وَزْنِیّ اور وَصْلِیّ کہا جائے گا۔

مثنّی اور جمع کی طرف نسبت کرنے کا قاعدہ

مثنّی اور جمع کی طرف نسبت کرنا ہو تو انہیں مفرد کی طرف لوٹا کر یائے نسبتی لگائی جائیگی جیسے عراقین سے عراقیّ اور مسلمین سے مسلمّی اور یہی حکم ان کا بھی ہے جو تثنیة اور جمع کے ساتھ لاحق ہوں، جیسے اثنین، عشرین، اربعین کی طرف نسبت کیلئے کہیں گے اثنیّ و ثنویّ، عشریّ، اربعیّ ۔

ایسے جمع جن کا مفرد نہیں آتا جیسے ابابیل، عبادید یا اس کے لفظ سے جمع نہیں آتا جیسے مخاطر جو خطر کی جمع ہے،مناجد جو خُلد کی جمع ہے

اور نساء جو امراۃ کی جمع ہے، نسبت کرتے ہوئے اپنے حال پر رہیں گے، جیسے مخاطریّ، مناجذیّ، نسائیّ۔

جمع مکسَّر بعض علماء صرف کے نزدیک نسبت کی حالت میں اپنی وضع پر رہیگا، جیسے ملائكة، ملوك اور كنائس کی طرف نسبت میں کہا جائے گا۔ ملائکیّ، ملوکیّ اور کنائسیّ۔

جمع مکسّر عَلَم ہو اور اس کے مماثل ہو تو اسے بھی اس کے مفرد کی طرف لوٹائے بغیر اس کی اسی حالت میں نسبت کی یاء لگادی جائے گی، جیسے انبار سے انباریّ، انصار سے انصاری اور اھواز سے اھوازیّ

مرکب بنائی علَم سے نسبت کیلئے آخر کا حرف حذف کر دیا جائے گا اور اول جزء کی طرف نسبت کریں گے جیسے بعلبك، معدی کرب میں بعلیّ اور معدیّ کہا جائے گا۔

جہاں تک مرکب اضافی کا تعلق ہے تو کسی میں تو جزء اوّل کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کسی میں جزء ثانی کی طرف جیسے امرئُ القیس اور دیر القمر سے امرئی اور دیرانیّ۔ دوسری صورت کی مثال میں عبدالاشھل سے نسبت پر اشھلیّ، ابی بکر سے نسبت پر بکریّ اور عبدمناف سے نسبت پر منافیّ لیکن کبھی مرکبات اضافہ میں پورے مرکب سے نسبت کرتے ہیں گویا مرکب اضافی کو مرکب بنائی قرار دیتے ہیں، جیسے عین ابل میں عین ابلیّ، وادی آش میں وادی آشیّ اور عین حور میں عین حوریّ۔

مرکب اسنادی میں جزء اول کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور جزء ثانی کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے تابط شرًّا سے تابطیّ اور ذرَّحبًّا سے ذَرِّيّ

ذیل میں بعض ایسے اسماء کی جدول دی گئی ہے جو قواعد نسبت کے خلاف مستعمل ہیں۔

یہ جدول حروف تہجی کے لحاظ سے مرتب کی گئی ہے۔

انف کبیر	سے	انافیّ	دیر	سے	دَیْرانیّ	صدر کبیر	سے	صَدْرانیّ
امیّه	سے	اَمَوِیّ	داریًّا	سے	دارانیّ	صنعاء	سے	صنعانیّ
بهراء	سے	بهرانیّ	رُوح	سے	روحانیّ	طبیعة	سے	طبیعیّ
بادیة	سے	بَدَوِیّ	ربّ	سے	رَبّانیّ	طیّء	سے	طائی
البحرین	سے	بَحْرَانِیّ	رقبة عظیمة	سے	رَقَبانِیّ	عمیرة کلب	سے	عُمَیْرِیّ
تِهامة	سے	تِهامِیّ و تِهامٍ	روحاء	سے	رَوْحانِیّ	بنی عبیده	سے	عبَدِیّ
تیم اللات	سے	تَیْمَلِیّ	رُدَیْنَة	سے	رُودَیْنِیّ	عبدقیس	سے	عَبْقَسِیّ
ثقیف	سے	ثَقَفِیّ	رام هرمز	سے	رامِیّ	عبدشمس	سے	عَبْشَمِیّ
جمَّة عظیمة	سے	جَمَّانِیّ	الرّیّ	سے	رازیّ	عبدالدار	سے	عَبْدَرِیّ
جذیمة	سے	جُذَمِیّ	الرباب	سے	رُبِّیّ	عبدالله	سے	عبدلیّ
جلولاء	سے	جَلُولِیّ	سَهْل	سے	سُهْلِیّ	فقیم کنانة	سے	فُقَمِیّ
بنی الحُبلی	سے	حُبَلِیّ	سَلِیقه	سے	سَلِیقِیّ	الفراهید	سے	فُرْهودیّ
حروراء	سے	حَرُورِیّ	سلیمة الازد	سے	سُلَیْمِیّ	قُوَیم	سے	قُوَمِیّ

الحرمین (مکة و مدینه	سے	حِرْمِیّ	سُلَیْم	سے	سُلَمِیّ	قُرَیْش	سے	قُرَشِیّ
حضر موت	سے	حَضْرَمِیّ	الشأم	سے	شَآمٍ	کنتُ	سے	کُنْتِیّ
حُزَیْنَة	سے	حُزَنِیّ	شَعْر کثیر	سے	شَعْرَانِیّ	لحیة عظیمة	سے	لَحْیَانِیّ
دَهر	سے	دُهْرِیّ	شنوءَة	سے	شَنَئِیّ	مُلَیح خُزاعَة	سے	مُلَحِیّ
مرو الشاهجان	سے	مَرْوَزِیّ	هُذَیْل	سے	هُذَلِیّ	ناصرة	سے	نَصْرَانِیّ
امرؤ القیس	سے	مَرْقَسِیّ	الانباط	سے	نُبَاطِیّ	الیمن	سے	یمانٍ
هَجَرَ	سے	هاجرِیّ			ونَبَاطٍ			

تصغیر

اسم کے دوسرے حرف کے بعد یاء ساکنہ کا بڑھانا تصغیر کہلاتا ہے۔اس سے قلت یا حقارت کا اظہار ہوتا ہے۔جس اسم کی تصغیر مقصود ہو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو ضمہ اور دوسرے کو فتحہ دیا جائے جیسے عبد کی تصغیر میں عُبَیْد اور رجل کی تصغیر میں رُجَیْل۔

اگر اسم رباعی یا اس سے زیادہ ہو تو یاء تصغیر کے بعد واقع ہونے والے لفظ کو کسرہ دیا جائے گا۔جیسے درھم کی تصغیر میں دُرَیْهِم اور بُلْبُل کی تصغیر میں بُلَیْبِل

اگر اسم کے آخر میں علامت تانیث ہو یا الف ونون زائدتان ہوں اور جمع افعال کے وزن پر ہو تو ایسی حالتوں میں سے ہر ایک حالت کے لئے مخصوص قاعدہ ہے۔

آخر میں علامت تانیث والے اسم میں علامت سے متصل حرف اسی حالت پر رہے گا جس پر تصغیر سے پہلے تھا جیسے ثَمْرَة کی تصغیر ثُمَیْرَة میں اور بُشْرٰی کی تصغیر بُشَیْرٰی اور سَمْرَاء کی تصغیر سُمَیْرَاء میں۔

جس اسم کے آخر میں الف ونون زائدتاں ہوں، اس میں بھی تصغیر سے قبل ان دونوں الف ونون سے متصل حرف اسی حالت پر رہے گا، چنانچہ سکران کی تصغیر میں کہیں گے سُکَیْران

افعال کے وزن پر جمع کی تصغیر کا بھی وہی قاعدہ ہے جو اسم کا ہے جس کے آخر میں یائے تانیث ہو چنانچہ اوقات اور اصحاب کی تصغیر، اُوَیْقات اور اُصَیْحاب ہوگی۔

اگر کلمہ مؤنث معنوی ثلاثی کا ہو تو تصغیر بنانے میں تاء مقدرہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے، جیسے شمس کی تصغیر شُمَیْسَة اور ارض کی تصغیر اُرَیْضَة میں۔لیکن شرط یہ ہے کہ التباس پیدا نہ ہو اگر التباس کا امکان ہو تو مثال کے طور پر شجر کی تصغیر میں شُجَیْر کہا جائیگا، تاکہ شجرة کی تصغیر سے گڈمڈ نہ ہو۔خمس کی تصغیر میں جس سے مراد معدود مؤنث ہے خُمَیْس کہا جائیگا تاکہ خمسة جو معدود مذکر کے لئے آتا ہے،اس کی تصغیر خمیسة سے گڈمڈ نہ ہو۔

حرف علت والے کلمہ کی تصغیر

۱۔ یاء تصغیر سے قبل واقع بدلا ہوا حرف علت، تصغیر کے وقت اپنے اصل کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔چنانچہ باب کی تصغیر بُوَیْب اور ناب کی نُیَیْب آتی ہے، باب میں الف واء سے بدلا ہوا ہے۔جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی جمع ابواب ہے۔ناب میں الف یاء سے بدلا ہوا ہے کیونکہ اس کی جمع انیاب ہے۔اور قاعدہ یہ ہے کہ جمع تکسیر اشیاء کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے۔

اگر کسی کلمہ کا الف ایسا ہو کہ پتہ نہ چلے کہ وہ واؤ سے بدلا ہوا ہے یا یاء سے جیسے عاج کے الف میں، تو وہاں پر ماقبل کے ضمہ کا لحاظ کرتے ہوئے اور یا پر ترجیح دیتے ہوئے واؤ سے بدل دیا جائے گا۔ اور کہا جائیگا عُوَيْج۔ بدلے ہوئے واو اور یاء کا بھی یہی حکم ہے۔ جیسے موسر، میزان چنانچہ ان کی تصغیر پر کہا جائے گا مُيَيْسِر اور مُوَيْزِين۔ عید کی تصغیر عُيَيْد شاذ ہے، کیونکہ عید کی یاء واؤ سے بدلی ہوئی ہے۔ اگر واو اور یاء بدلی ہوئی نہ ہوں جیسے سو اور بیت میں تو واؤ اور یاء کا لفظ اپنی حالت پر رہے گا، تو سور کی تصغیر سُوَيْر اور بیت کی تصغیر بُيَيْت ہے۔

۲۔ اگر مصغر بنائے جانے والے اسم کا دوسرا حرف الف زائد ہو جیسے خالد، ضارب کا الف، تو وہ واؤ سے بدل دیا جائیگا اور کہا جائے گا۔ خُوَيْلد و ضُوَيْرِب۔

۳۔ اگر اس کا تیسرا حرف الف یا واؤ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو یاء سے بدل دیا جائے گا اور یاء تصغیر اس میں مدغم ہو جائے گی اور عصا، دلو، عجوز، کتاب کی تصغیر میں بالترتیب کہا جائے گا۔ عُصَيّ، دُلَيّ، عُجَيِّز و كُتَيِّب لیکن اگر واؤ متحرک ہو (جمع مکسر میں یا مفرد میں) اور لام کلمہ نہ ہو، تو اس صورت میں واو کا یاء سے بدلنا اور باقی رکھنا جائز قرار دیا گیا ہے۔

چنانچہ تصغیر کی صورت میں جدول، جُدَيِّل و جُدَيْوِل ہے اور اَسْوَد۔ اُسَيِّد اور اُسَيْوِد۔

۴۔ اگر اسم کا تیسرا حرف یا ہو تو تصغیر کی یاء اس میں مدغم ہو جائے گی، جیسے مَرْيَم سے مُرَيِّم کریمہ سے کُرَيِّمہ اور جمیل سے جُمَيِّل ہیں۔

۵۔ اگر چوتھا حرف واو یا الف ہو تو ہر ایک یاء میں بدل جائے گا کیونکہ کسرہ دینے کے بعد دونوں ساکن ہو جائیں گے چنانچہ عصفور کی تصغیر پر کہا جائے گا۔ عُصَيْفِير اور سلطان کی تصغیر پر سُلَيْطِين

افعل التفضیل ناقص سے ہو جیسے اَحْلَى۔ اَشْهَى تو تصغیر میں یاء تصغیر کا مابعد افعل التعجب کی طرح مفتوح رہے گا جیسے هو اُحَيْلَى من العسل۔

ایسے اسم کی تصغیر جس میں کچھ حذف ہو۔

۱۔ اگر اسم کے اصلی حروف کا باقی دو حرف ہوں تو تصغیر میں میں محذوف حرف اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جیسے اب، اخ، دم کی تصغیر میں اُبَيّ، اُخَيّ، دُمَيّ۔

۲۔ اگر اسم کے محذوف حرف کے عوض ہمزہ وصل ہو جیسے ابن میں تو عوض کا ہمزہ وصل تصغیر بناتے وقت حذف کر دیا جائے گا اور محذوف حرف لوٹایا جائے چنانچہ کہا جائے گا بُنَيّ

۳۔ اگر محذوف کے عوض تاء تانیث ہو جیسے زِنَة جو وَزَنَ کا مصدر ہے اور عدۃ جو وَعَدَ کا مصدر ہے، تو محذوف لوٹایا جائے گا لیکن عوض حذف نہیں کیا جائیگا چنانچہ کہا جائیگا وُزَيْنَة اور وُعَيْدَة

لیکن اخت اور بنت کی تاء محذوف نہ ہوگی بلکہ تاء مربوطہ میں تبدیل ہو جائیگی اور تصغیر پر کہا جائے گا: اُخَيَّة، بُنَيَّة۔

مثنی، جمع سالم اور جمع قلت کی تصغیر

مثنی اور جمع سالم کی تصغیر انہی لفظوں پر بنائے جائیگی اور مؤمنان، مؤمنو اور مؤمنات سے مؤیمنان، مؤیمنو اور مؤیمنات کہیں

گے۔ ایسا ہی جمع قلت مکسر کا حکم ہے چنانچہ ارغفۃ کی تصغیر اُرَیْغِفَۃ ہے۔

جمع کثرت کی تصغیر

جمع کثرت کی تصغیر بنانا ہو تو اس کے مفرد کی تصغیر بنا کر واؤ نون لگا دیا جائے جیسے غلما کی تصغیر جو غلام کی جمع ہے اس طرح ہوگی کہ غلام کی تصغیر بنائی جائے جو یہ ہے غُلَیْم اس پر واؤ نون (جمع کے) لگانے سے غُلَیْمُون ہو جائے گا اور یہ غلما کی تصغیر ہوگی۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ شاعر کی تصغیر شُوَیْعِر اور یوں شعرا کی تصغیر شُوَیْعِرُون بنے گی۔ اگر مذکر مؤنث یا لایعقل ہو تو آخر میں واؤ نون کے بجائے الف تاء لگائیں گے، جیسے جاریہ کی جمع جوار کی تصغیر جویریات ہوگی اور درھم کی جمع دراھم کی دریھمات۔

تنبیہ: ا: مندرجہ ذیل الفاظ کی تصغیر خلاف قیاس آئی ہے، ابیحر بحر کی، مغیربان مغرب کی، عُشَیَّان عشاء کی، اُنَیْسیان انسان کی، رویجل رجل کی، اصیلال اصیل کی، عُشَیْشِیَّۃ عشیۃ اُصَیْبِیَۃ صَبِیۃ اور اُغَیْلِمۃ غِلمۃ کی تصغیر ہیں۔ نیز قُوَیس، ذُرَیع۔ حُرَیب، نُعَیل، عُرَیس اور ذُوَیدبکہ قیاس کے مطابق ان سب کے آخر میں تاء لوٹائی جانی چاہئے تھی۔

۲۔ مرکب اضافی کی تصغیر کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے جزء کی تصغیر بنا کر دوسرے جزء کو اس کی حالت پر رہنے دیا جائے، چنانچہ عبداللہ کی تصغیر عبید اللہ ہوگی۔ مرکب بنائی کی تصغیر کا بھی یہی طریقہ ہے مثلاً معدی کرب کی تصغیر مُعَیدی کرب حضر موت کی حُضَیرَ موتَ نفطویہ کی نُفَیْطویہ اور خمسۃ عشر کی خُمَیْسۃ عشر۔ مرکب اسنادی جیسے تابط شرا کی تصغیر نہیں آتی۔

ہمزہ کی کتابت

ا۔ اگر ہمزہ ابتداء میں واقع ہو تو ہمیشہ الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے أسماء، اکرام، اسی طرح اگر ابتداء میں کوئی دوسرا لفظ اس سے متصل ہو، جیسے بأجمل، لأفصل لیکن لئلاً، لئن میں کثرت استعمال سے ہمزہ متوسطہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔

اگر ہمزہ وصل ہو تو فا اور واو کے بعد حذف کر دیا جاتا ہے بشرطیکہ بعد میں ہمزہ ہو جیسے فأتنی و أذن لہم۔

۲۔ اگر ہمزہ وسط میں ہو اور ساکن ہو تو اپنے ماقبل حرکت کے مطابق لکھا جائے گا، جیسے بَأْس، بُؤْس، بِئْس لیکن ہمزہ وصل کے بعد ہو اور بدلا ہوا ہو، پھر اثناء گفتگو میں اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا گیا ہے، تو جس حرف سے بدلا گیا ہو اس کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے یارجل ائذن، ھذا الذی اؤْتمنت علیہ۔

ہمزہ متوسطہ متحرکہ اپنے حرف کی حرکت کے مطابق لکھا جاتا ہے، خواہ اس سے پہلے حرف ساکن ہو یا متحرک جیسے لَـؤُمَ، رؤُف، سَـأَلَ، یَسْأَلُ، مَسْأَلَۃ الخ۔ ضمہ یا کسرہ کے بعد مفتوحہ نہ ہونے کی صورت میں ماقبل حرف کی صورت کے مطابق لکھا جاتا ہے جیسے سُؤال، رِئال ومؤنث۔

اگر ہمزہ الف و یاء کے درمیان واقع ہو تو ہمزہ یا یاء کی صورت میں لکھنا جائز ہے جیسے: بقاءِ ی یا بقائی، الراءِ ی یا الرائی۔

اگر ہمزہ الف اور ضمائر میں سے یاء کے علاوہ کسی اور کے درمیان واقع ہو، تو اگر مکسور یا مضموم ہو تو اپنی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں اور مفتوح ہو تو ہمزہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے جیسے بناؤُہ، بقائِہ، بقاءَہ

۳۔ اگر کلمہ کے آخر میں واقع ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، تو ہمزہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے حزءٌ، شیءٌ اور اگر ماقبل متحرک ہو، تو ماقبل کی حرکت کے حرف کے مطابق لکھا جاتا ہے، جیسے ھَیُؤ، لکأً، ظَمِیَ۔ اگر ہمزہ طرف میں واقع ہو اور تاء تانیث لاحق ہو، تو اگر اس کا ماقبل حرف صحیح ہو اور ساکن ہو تو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے: نشأۃ اگر وہ متحرک ہو تو ماقبل کی حرکت کے مشابہ حرف سے لکھا جائے گا۔

جیسے فِئَۃ، لُؤلُؤَۃ۔ لیکن اگر ماقبل معتل ہو، تو یا، کے بعد یاء کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور الف اور واو کے بعد ہمزہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے جیسے: خَطیئۃ، بریئۃ، قراءَۃ، صلاءَۃ، مروءَۃ، سوءۃ۔

ابدال

ابدال کسی حرف کو دوسرے حرف کی جگہ رکھنے کا نام ہے۔ ذیل میں ایسے کثیر الوقوع حروف دیئے گئے ہیں:

اگر الف ضمہ کے بعد واقع ہو تو واوٗ سے بدل جائے گا، جیسے ضُورِبَ، قُوتِلَ جو ضَارَبَ و قَاتَلَ کا مجہول کا صیغہ ہیں۔

اگر ضمہ کے بعد یاء ساکن واقع ہو تو واو سے بدل جاتی ہے، جیسے: مُوقِن، مُوسِر (أَیقَنَ اور ایسَرَ سے)

اگر واو یا یاء متحرک ہو اور ماقبل مفتوح، تو واو یا یاء الف سے بدل جاتا ہے، جیسے: قَالَ، غزا، باع، رمی۔ پہلے دو باب نَصَرَ اور آخری دو باب ضَرَبَ سے ہیں۔ لیکن اس قاعدہ میں شرط یہ ہے کہ حرکت اصلی ہو اور اسی کلمہ میں فتحہ ہو، فَعِلَ یا اِفتَعَلَ کے عین کلمہ کی جگہ میں نہ ہو یا اسماء سے متعلق زیادتی پر ختم نہ ہو، اس کے بعد کوئی ایسا حرف نہ آئے جس کی اس سے تعلیل ہوتی ہو، اس کا مابعد متحرک ہو، اگر عین کلمہ ہو اور اس کے بعد الف یا یاء مشدّدہ نہ آئے اگر لام کلمہ ہو۔ اگر کسی کلمہ میں واو اور یاء اکٹھی آئیں اور ان میں پہلا ساکن ہو، تو واو یاء سے بدل جائے گی، جیسے طَیّ، مَیّت، مرمِیّ، اصل میں طوْی، میْوت اور مرمُوی ہیں۔

اگر کسرہ کے بعد واو ساکن واقع ہو تو یاء سے بدل جاتی ہے۔ جیسے مِیزان، میقات (وزن، وقت سے)

کسرہ کے بعد ساکن حرف علت یاء سے بدل جاتی ہے، جیسے عصفور، مصباح جب ان کی تصغیر کی جائے یا تکسیر جیسے عصیفیر، مصیبیح۔

واو یا یاء اگر الف زائدہ کے بعد طرف میں واقع ہو تو ہمزہ سے بدل جاتے ہیں، جیسے کساء، سماء، بناء، ظباء۔

جو مدہ زائدہ مفرد میں ہو اگر فعائل وغیرہ کے الف کے بعد واقع ہو تو ہمزہ سے بدل جاتا ہے، جیسے عَجَائِز، قلائِد، صحائف جو عجوز، قلادہ اور صحیفہ کی جمع ہیں۔

جب واو یا یاء افتعل کی فاء واقع ہو تو تاء سے بدل جاتی ہے جیسے اِتصل، اتسر (وصل، یُسر سے)

اگر دال، ذال یا زای کے بعد افتعل کی تاء واقع ہو تو دال سے بدل جاتی ہے، جیسے: ادّان، اذدکر، اذدان (دین، ذکر، زینۃ سے)

اِذدُکِرَ وغیرہ میں ذال کو دال سے یا دال کو ذال سے بدلنا جائز ہے، جیسے اِدّکرَ، اِذّکرَ۔

اگر افتعل کی تاء، صاد یا ضاد یا طاء یا ظاء کے بعد واقع ہو تو طاء سے بدل جاتی ہے، جیسے: اصطبَرَ، اِضطَرَبَ، اِطّرَدَ، اظطلم (صبر، ضرب، طرد، ظلم سے) اظطلم وغیرہ میں ظاء کو طاء سے اور طاء ظاء سے بدلنا جائز ہے جیسے: اِطّلم، اظّلم۔

☆☆☆

ا

۱۔ تلفظ: الألِف: اس کی دو قسمیں ہیں پہلی ساکن جیسے قام میں اسے لیّن کہا جاتا ہے دوسری متحرک جسے ہمزہ کہتے ہیں۔ حروف ابجد میں اس کا شمار ایک ہے۔ اس کے یعنی ہمزہ کے مندرجہ ذیل معنی ہیں:

۱۔ استفهام: اقرات؟ کیا تو نے پڑھا؟ اما قراتَ؟ کیا تو نے نہیں پڑھا۔ اَفَلَمْ تَقْرَأْ؟ کیا تو نے نہیں پڑھا؟ افی البیتِ اخوك ؟ کیا گھر میں تیرا بھائی ہے۔

۲۔ نداء قریب: ازیدُ اقْبِل: اے زید آ۔

۳۔ تسویة: جس جملہ میں جس پہ وہ داخل ہوا سے مصدر میں تبدیل کرنے کا امکان پایا جائے جیسے: سواءٌ علّی اقمت ام قعدت: یعنی سواءٌ علیّ قیامُكَ و قعودُك: میرے لئے تیرا کھڑا ہونا یا بیٹھنا برابر ہے۔

۲۔ آ: حرف نداء بعید کے لئے یا جو اس کے زمرہ میں آتا ہو جیسے نائم (سونے والا) اور غافل

آب ۱۔ شمسی سال کا آٹھواں مہینہ جولائی اور ستمبر کے درمیان: اگست: یہ ۳۱ دنوں کا ہوتا ہے۔

۲۔ الآب: عیسائیوں کے نزدیک اقنوم اول بمعنی باپ، محترم باپ، پادری کا لقب اور اسے مخاطب کرنے کی شکل۔

اب: ۱۔ اَبَّ ـُ ابًّا و أَبابًا و أَبابَةً وإبابَةً اليه: کا مشتاق ہونا۔ کو چاہنا، کا خواہشمند ہونا۔ الأَب جمع اَوُب: سوکھی یا تر گھاس۔ الأَباب: پانی۔ سراب۔

۲ أَبَّ ـِ أَبِيبًا و أبًّا و اَبابًا و ابابَةً: آمادہ ہونا، تیار ہونا۔ ـــ يَدَهُ الى السيف: تلوار سونتنے کے لئے ہاتھ پیچھے کرنا۔ ـ ابَّهُ: کے قصد کی طرح قصد کرنا، کسی کے ارادہ پر چلنا، کسی کی روش کو اپنانا۔ اَبَّبَ: چیخنا۔ چلانا۔

تأبَّبَ به: پر تعجب کرنا، فخر کرنا، پر خوش و شاداں ہونا۔

۳۔ الأَبَّاتي: صدر راهب: راہبوں کا اعزازی رتبہ۔

○ اَبَّ إلى وطنه: اپنے وطن کا آرزومند ہونا، مشتاق ہونا، کی آرزو میں ہونا۔

ابا: أَبَا يَأْبَاهُ بالسهم: کو تیر سے مارنا

ابت: أَبَتَ ـِ و أَبِتَ ـَ أَبْتًا و أُبُوتًا النهارُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ صفت: أَبُتٌ و أَبْتٌ و ابِتٌ۔ تَأَبَّتَ الجمرُ: انگارے کا بھڑکنا، دہکنا، تیز ہونا۔ اُبْتَةُ الغضبِ: غصہ کی تیزی و تندی۔

ابجد: أَبْجَدُ: لغت عرب میں آٹھ مشہور کلمات کا پہلا کلمہ جن میں حروف ہجا جمع کر دیئے گئے ہیں اور وہ یہ ہیں: ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ اس ترتیب میں حساب جمل کی رعایت رکھی گئی ہے اور تاریخ اکثر انہی کے لحاظ سے نکالی جاتی ہے۔ ان میں عدد کا شمار اس طرح کیا گیا ہے کہ پہلے اکائیاں پھر دہائیاں پھر سینکڑے اور ان کے بعد ہزار ہیں۔ نقشہ ذیل ملاحظہ ہو:

ا	۱	ح	۸	س	۶۰	ت	۴۰۰
ب	۲	ط	۹	ع	۷۰	ث	۵۰۰
ج	۳	ی	۱۰	ف	۸۰	خ	۶۰۰
د	۴	ک	۲۰	ص	۹۰	ذ	۷۰۰
ه	۵	ل	۳۰	ق	۱۰۰	ض	۸۰۰
و	۶	م	۴۰	ر	۲۰۰	ظ	۹۰۰
ز	۷	ن	۵۰	ش	۳۰۰	غ	۱۰۰۰

ابد: ۱۔ أَبَدَ ـِ أُبُودًا الشاعر: شاعر کا ایسے مشکل اور غریب الفاظ لانا جن کے معنی کا پتہ نہ لگے۔ الآبِدة جمع اَوَابِد: عجیب و غریب شے۔ اَوَابِدُ الكلام: حیرت انگیز کلام۔ اَوَابِدُ الشعر: جس کی ندرت میں مثال نہ مل سکے۔) بڑی مصیبت و آفت جس سے انسان گھبرائے۔

۲۔ اَبِدَ ـَ اَبَدًا: وحشی و جنگلی ہونا۔ اَبَدَ ـِ اُبُودًا الحیوانُ: جانور کا جنگلی اور وحشی ہونا۔ تَأَبَّدَ: وحشی اور جنگلی ہونا۔ المکانُ: جگہ کا ویران اور غیر آباد ہونا، جنگلی جانوروں کا مسکن اور قرارگاہ بننا۔ الآبِدَة جمع اُوَابِد: وحشی۔

۳۔ أَبَدَ ـِ اُبُودًا بالمكان: کسی جگہ ٹھہرنا اَبَّدَهُ: کو ہمیشہ رکھنا۔ تَأَبَّدَ: ابدی ہونا۔ الآبِدَة جمع اَوَابِد: ہمیشہ یاد رکھی جانے والی مصیبت۔ اَوَابِدُ الدُنيا: دنیا کے مصائب و آلام۔ الأَوَابِد: وہ پرندے جو سرما و گرما کے موسموں میں ایک ہی جگہ رہیں۔ قَوَاطِع کی ضد۔ الأَبَد جمع آباد و أبود: زمانہ قدیم، ازلی، ہمیشہ رہنے والا، کہا جاتا ہے: لا آتیه أَبدا الأَبَدين و الآبدین و أَبَدَ الأبد و ابَدَ الآباد و ابَدَالدهر: میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ أَبَدًا: ظرف زمان جو مستقبل میں نفی و اثبات کی تاکید کیلئے آتا ہے۔ جیسے: لا افعله ابدا او افعله ابدا: میں اس کو ہرگز نہیں کروں گا، یا اس میں اس کو ضرور کروں گا الأَبدی: جس کی انتہا نہ ہو۔ ابدی۔ الأَبَدِيَّة: ہمیشگی، دوام جس کی انتہا نہ ہو۔ آخرت

۴۔ أَبِدَ ـَ أَبَدًا عليه: پر غصہ ہونا، غضبناک ہونا۔

○ اَبَدَ ـِ اُبودًا ب: کسی جگہ ٹھہرنا، دیر تک رہنا ـــ ـُ: (جانور شکار کا) وحشت میں مارے مارے پھرنا، شتر بے مہار ہونا، بھڑکنا، بدکنا، بھاگنا اَبَّدَهُ: کو پائیدار یا مستقل بنانا، باقی رکھنا، قائم رکھنا، ابدی بنانا۔ تَأَبَّدَ: ابدی ہونا، پائیدار یا مستقل ہونا، وحشت میں لوٹ آنا۔ ابَدَ جمع آباد: دائمی غیر مختتم دوران یا مدت،

دوام، ابد، ابدیت، بڑا لمبا عرصہ۔ آخرت۔ اَبَدًا: ہمیشہ، کبھی نہیں، علی الأبد، إلی الأبد اور ابدَ الدهر ہمیشہ۔ أبدَ الابدين اور إلی أبدا الابدين ہمیشہ۔ أبَدِی: دائمی، مستقل ابدی، غیر مختتم الابدی: ابدیت، ابد، دوام ابدية: دوام، ابد، ابدیت، غیر مختتم وقت، لامتناہی دوران یا مدت آبد: جنگلی، وحشی۔ آبِدَة جمع أوابد: غیر معمولی چیز، حیرت انگیز واقعہ۔ أوابدُ الدنيا: عجائبات عالم۔ مُؤَبَّد: دائمی، ابدی، لانہائی، ہمیشہ رہنے والا، لازوال، سِجنٌ مُؤَبَّدٌ: عمر قید۔

ابر ا۔ ابَرَ ـِ أبْرًا و إبارًا ةً: کو سوئی کھلانا۔ ابَرتِ العقربُ فلانًا: بچھو کا کسی کو ڈسنا، کسی کی غیبت کرنا، کو ہلاک کرنا۔ الأبَّار: سوئیاں بنانے والا، سوئیاں بیچنے والا، پسو۔ الإبْرَة جمع إبَر و إبار و إبَرات: سوئی (کپڑے سینے کی)، شُغلُ الإبرَة: سوزن کاری۔ ابرة مغنطيسية: مقناطیسی سوئی، جو شمال کی سمت کا تعین کرتی ہے (ح) کسی کیڑے، بچھو یا مکھی کا ڈنک، جسے الحُمة کہتے ہیں۔ ابرةُ القرن: سینگ کا سرا، چغلی۔ الإبْرِی: سوئیاں بیچنے والا۔ المِئبَر و المِئبار: سوئی دانی (Needle case)، درختوں میں قلم لگانے کی چھری المِئبرة جمع مَآبِر: چغلی۔

۲۔ أبَرَ ـُـ أبْرًا و إبارًا الزرعَ (ن): (کھیتی کی) اصلاح کرنا، گابھا دینا، قلم لگانا الأبَّار: کھجور کے درخت کو گابھا دینے والا، قلم لگانے والا۔ المِئبَر: درختوں میں قلم لگانے کی چھری۔

۳۔ إئتبرَ البئرَ: کنواں کھودنا۔

۴۔ الأبْرَشِيَّة والأبروشِيَّة: بشپ کا ماتحت علاقہ یا وہ اشخاص جو اس کی ماتحتی میں ہوں۔ (یونانی لفظ)

۵۔ الإبْرِيز والإبْرِيزِیُّ: خالص سونا (یونانی لفظ)

۶۔ الإبْرِيسم والإبْرَيْسَم: ریشم (فارسی لفظ)

۷۔ الإبْرِيق جمع اباريق: لوٹا، چھاگل۔

۸۔ أبْرِيل: اپریل (چوتھا مہینہ شمسی سال کا) اسے نیسان بھی کہتے ہیں۔ (لاطینی لفظ)

○ أبَّــر ہ: کھجور کے درخت پر زرگل چھڑکنا اور اسے زرخیز بنانا۔ إبرَة جمع إبَر: سوئی، پن، سوئی، بتانے والا آلہ Indicator، انجکشن، ڈنک، کانٹا، خار، آر۔ حَقَنَهُ إبرَةً: کو انجکشن لگانا یا دینا إبرَةُ الراعی: ایک جنگلی درخت جس میں سارس کی چونچ جیسا پھل آتا ہے۔ ایک پھول کا پودا۔

ابز: ا۔ أبَزَ ـِ أبْزًا و أبُوزًا الظبیُ: ہرن کا کودنا، دوڑنا صفت: آبِز و أبَّاز و أبُوز أبَزَ ـ أبْزًا بصاحبه: ساتھی پر ظلم کرنا۔

۲۔ الإبْزِيم والإبْزَام جمع أبَازِيم: بکسوا کہا جاتا ہے: أنشب الابزيمَ: بکسوا لگانا، بکلس لگانا۔

○ إبزِيم جمع ابَازِيم: بکسوا، بکلس، پکڑ، گرفت۔

ابش: أبَشَ ـُ أبْشًا: کو جمع کرنا أبَّشَهُ: کو جمع کرنا، تَـأبَّشَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا۔ الأُبَاشَة من الناس: مخلوط جماعت۔

ابض: أبَضَ ـِ أبْضًا البعيرَ: اونٹ کے اگلے پاؤں کو پچھلے پاؤں سے باندھنا۔ تأبَّضَ البعيرَ: کو رسی سے باندھنا۔ ـــ البعيرُ: رسی سے بندھا ہونا۔ الأُبْض جمع آباض (ع ا): زانو کا اندرونی حصہ، پشت ران، پٹھا۔ الإباض: اونٹ کو باندھنے کی رسی۔ المَأبِض (ع ا): زانو کا اندرونی حصہ۔

○ أُبْض جمع آباض ومَأبِض جمع مَآبِض: گھٹنے کا اندرونی حصہ۔

ابط: تَـأبَّطَ الشيءَ: کو بغل کے نیچے رکھنا۔ الإبْط جمع آباط (ع ا) بغل (مذکر و مونث)، إبْطُ الجبل: دامن کوہ۔ الإباط: بغل میں دبائی ہوئی چیز۔

○ تَـأبَّطَ ہ: بغل میں لینا یا لیجانا، ــــ ہ یا ھ: کے گرد بازو رکھنا، کو بازو میں لینا، رکھنا، پکڑنا۔

ابق: أبَقَ ـِ و أبِقَ ـَ إباقًا و أبْقًا و أبَقًا العبدُ: غلام کا آقا کے پاس سے بھاگ جانا صفت: آبِق ج أُبّق و أبّاق۔ تـأبَّقَ: چھپنا۔ ـــ الشيءَ: کا انکار کرنا، کو برا سمجھنا، نا آشنا سمجھنا۔

○ أبَــق: پٹ سن، سن جس کے ریشے سے کپڑا اور ٹاٹ بنایا جاتا ہے۔ آبق: بھگوڑا۔

ابل: ا۔ أبَلَ ـُ أبَالَةً و أبِلَ ـَ أبَلاً: اونٹوں کا اچھی طرح انتظام کرنا، اونٹوں کی دیکھ بھال میں مہارت دکھانا، صفت أبِل و آبِل جمع أُبّال۔ أبَّلَ: بہت اونٹوں والا ہونا ـــ الإبلَ: اپنی ملک میں بہت اونٹ رکھنا، بہت اونٹوں کا مالک ہونا۔ تَـأبَّلَ الإبلَ: اونٹوں کو چھانٹ کر جمع کرنا۔ الإبْل و الإبِل جمع آبال: اونٹ (یہ لفظ جمع کے معنی دیتا ہے اس کا مفرد مستعمل نہیں)۔ المَأبَلة: بہت اونٹوں والی زمین۔

۲۔ الإبَالَة: جماعت، گروہ، دولت کا اچھا انتظام اور حسن سیاست۔ الأبابيل: غول، فرقے، گروہ، جھنڈ۔ اس کا واحد نہیں۔ طیر أبابیل: غول کے غول پرندے الأُبَلَّة: قبیلہ کہا جاتا ہے: جاءَ فی أُبُلَّتِهِ: وہ اپنے قبیلہ میں آیا الأبيلة و الإبيالة و الإبَّالة: گھاس یا لکڑیوں کا گٹھا۔ کہا جاتا ہے: ضِغثٌ علی إبَّالةٍ: مصیبت پر مصیبت آفت پر آفت۔

۳۔ أبَلَ ـُ أبَالَةً: راہب بننا۔ الأبِيل جمع آبال و أُبُل و الأبِيلِیّ و الأيبُلِیّ: راہب۔

۴۔ إبْلِيس جمع أبالِيس و أبالِسة: شیطان کا علم جنس۔

○ إبَالَة و إبَّالَة: گٹھا، گانٹھ، پلندا، گٹھری، گٹھڑ، پوٹلی۔

○ إبْلِيز: (دریائے نیل کے) زرخیز تہ نشین مادے۔

○ إبْلِيس جمع أبالِسَة: شیطان، ابلیس، بھوت، جن، خناس، آسیب، عفریت۔

ابن: ا۔ أبَنَ ـُ أبْنًا هُ بشيءٍ: پر کا عیب لگانا۔ ـ الدمُ فی الجرح: خون کا زخم میں سیاہ ہوجانا۔ أبَّنَهُ: پر عیب لگانا، کو عار و شرم دلانا۔ الأُبْنَة جمع أُبَن: عیب، کینہ۔

۲۔ أبَّـنَـهُ: کی موت کے بعد اس کے محاسن اور خوبیاں گنانا، مرثیہ کہنا۔ التأبين: مرنے والے کے محاسن اور خوبیوں کا اظہار، مرنے والے کی یادگار منانا۔ حفلة تأبين: مرنے والے کے اعزاز میں یادگار تقریب۔

۳۔ أبَّنَهُ و تأبَّنَهُ: کے نقش قدم پر چلنا، کے پیچھے لگنا، کا انتظار کرنا، إبانَةُ الرجلِ: آدمی کے سب ساتھی۔

۴۔ الإبْن: دیکھو ب ن ی۔ الأُبْنَة جمع أُبَن: لکڑی کی گرہ یا گانٹھ، پاؤں کی انگلیوں کی گانٹھ جسے لوگ "مسمار" کہتے ہیں۔ إبَّانُ الشيءِ: کسی چیز کی ابتداء یا وقت۔ کہا جاتا ہے: هو فی إبَّانِ شبابه: وہ اپنی جوانی کے آغاز میں ہے۔

۵۔ الأبَنُوس و الآبنوس (ن): درخت کی ایک قسم جس کی لکڑی سخت و سیاہ ہوتی ہے۔

○ أبَّـن ہ: مرنے والے کی یادگار منانا، تعریف کرنا، مدح کرنا، مرنے والے کی تعریف میں اس کی تجہیز و تکفین پر تقریر کرنا۔ إبَّان: وقت۔ إبَّان: کے دوران۔ فی إبَّانَ: کے وقت، کے دوران۔ مَأبُون: لونڈا، مفعول، مریل۔ زنانہ مرد، یا لڑکا زنانہ، زنانہ صفت، نامرد۔

ابه: أبَهَ ـَ أبْهًا لهُ: کو تاڑ جانا۔ کو سمجھنا لا يُؤبَهُ لهُ: اس کی طرف توجہ و التفات نہیں کی جاتی۔ أبَّهَهُ: کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا، سمجھانا۔ تَـأبَّهَ عن كذا: اپنے کو کسی سے بالا و برتر سمجھنا الأُبَّهَة و الأُبْهَة: بڑائی، تکبر، نخوت۔

۲۔ تَـأبَّـهَ عليه: پر تکبر کرنا، سے بڑا بننا الأُبَّهَة و الأُبْهَة: بڑائی۔

○ أبَهَ و أبِهَ ـ أبْهًا نیز ب: پر توجہ دینا، کی طرف توجہ کرنا، پر کان دھرنا، کی پروا کرنا۔ أمرٌ لا يُؤبَهُ له: ایک غیر اہم معاملہ۔ تَـأبَّهَ: متکبرانہ اخلاق و عادت ظاہر کرنا یا ان کا مظاہرہ کرنا۔ ـــ عن: سے ہٹنا، سے فاصلہ رکھنا، سے الگ تھلگ رہنا، کو نظر حقارت سے

دیکھنا، اپنے کو کسی شخص یا چیز سے بالاتر سمجھنا۔ اُبَّهَة: شان وشوکت، دکھاوا، تکبر، طمطراق، دھوم دھام۔

ابا: اَبَا ـُ اِبَاوَةً و اُبُوَّةً و اُبُوًّا: باپ ہونا۔ ـ ہ: کی باپ کی بیٹے جیسی دیکھ بھال کرنا، کی پرورش کرنا کہا جاتا ہے: ابوتُهُ و اَمَمْتُهُ: میں اس کے لئے بمنزلہ ماں باپ کے ہوگیا۔ اَبَّى فلاناً: سے کہنا کہ میں اپنے باپ کو تم پر فدا کرتا ہوں۔ تَاَبَّى فلاناً: کو باپ بنانا۔ الآب عند المسیحیین: عیسائیوں کے نزدیک اقنوم اول، جس کو وہ باپ کہتے ہیں۔ اَلأَب جمع آبَاء و اَبُون: والد، کسی چیز کو ایجاد کرنے یا اس کی اصلاح کا باعث، حالت رفعی میں واؤ کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یاء کے ساتھ آتا ہے: جیسے جاء ابوك (تمہارا باپ آیا) رَاَیتُ اَبَاكَ (میں نے تیرا باپ دیکھا) مررتُ بابیك (میں تیرے باپ کے پاس سے گزرا)۔ منادی کی صورت میں کہتے ہیں: یا ابی، یا اَبَتِ (اے میرے باپ) کہا جاتا ہے۔ لا اَبَ لكَ و لا اَباكَ و لا اَبَكَ یہ اس شخص کی تعریف یا گالی کے طور پر جس کا باپ ہو یا نہ ہو کہا جاتا ہے۔ معنی ہے: تیرا باپ مرے۔ بِأَبی انت: میرا باپ تجھ پر فدا ہو۔ اَبُو الیقظان: مرغ۔

ابو ایاس: ہاتھ منہ دھونے کی چیز جیسے خطمی وغیرہ ابو اَیُّوب: اونٹ۔ ابو الابرد: گدھ۔ ابو الأسْوَد: چیتا۔ ابو الاصبح: گدھا۔ ابو الاضیاف: میزبان ابو بَرِیص: چھپکلی۔ ابو البَشَر: حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت۔ ابو ثقیف: سرکہ۔ ابو جامع: دسترخوان۔ ابو حجاوة: ٹڈی۔ ابو جعاد: الّو۔ ابو جعران: گبریلا۔ ابو جمیل: ترکاری۔ ابو حبیب: بھنا ہوا بکری کا بچہ۔ ابو حُدَیج: لقلق۔ ابو حذر: گرگٹ۔ ابو حصین: لومڑی۔ ابو خان: کتا۔ ابو خِصیب: گوشت۔ ابو دغفاء: بیوقوف۔ ابو رزین: ایک قسم کا طوا۔ ابو رعلة: بھیڑیا۔ ابو زاجر: کوا۔ ابو زُهْرَة: گیدڑ۔ ابو سلیمان: مرغ۔ ابو السرو: بجور۔ ابو عذرا المراة: شوہر۔ ابو عِسْلَة: بھیڑیا۔ ابو عُقْبَة: سور۔ ابو العَلاء: فالودہ۔ ابو العفاء: گدھا۔ ابو عوف: ٹڈی۔ ابو عَون: نمک۔ ابو غزوان: بلی۔ ابو قِتْرَة: ابلیس کی کنیت۔ ابو قُرَّة: گرگٹ۔ ابو کُلَاة: نر بجو۔ ابو لاحق: باز۔ ابو لُبَد: شیر۔ ابو مالك: بھوک، بڑھاپا، گدھا۔ ابو مَثْوَی: میزبان۔ ابو مُرَّة: شیطان۔ ابو مَذْقَة: بھیڑیا۔ ابو مُرَّة: شیطان ابو مریم: قاضی کا پیادہ۔ ابو مِنْهال: گدھ۔ ابو مشغول: نر چیونٹی ابو مَرینا: مچھلی۔ ابو معاویة: چیتا۔ ابو المُنْذِر: مرغ۔ ابو نعیم: روٹی۔ ابو الوثاب: عقاب۔ اور بقول رازی "ہرن" ابو هُبَیْرة: نر مینڈک۔ ابو یَحْیَیٰ: ملک الموت۔

○ اَب جمع آباء: باپ۔ آباء: آباء واجداد، باپ دادا، گزشتہ نسلیں، اسلاف، مورث اعلی، الابَوان: ماں باپ، والدین۔ ابونا: مقدس باپ (پادری کا لقب اور اس کو مخاطب کرنے کی شکل) اَبًا عن جدٍّ: باپ سے بیٹے کو ملی ہوئی، آباؤ اجداد سے ترکہ یا ورثہ میں ملی ہوئی۔ ابو سُعْن: مغربی افریقہ کا سارس یا لقلق۔ ابو النوم: خشخاش، پوست، کوکنار، افیون کا پودا۔ ابو الهول: قدیم مصر کا ایک بت جس کا سر آدمی کا اور بدن شیر کا تھا۔ اُبُوَّة: باپ ہونا، ابوبیت: ولدیت۔ اَبَوِی: باپ کا، باپ کی طرف سے، پدرانہ۔

○ ابونیت: (Ebonite) گندھک ملا کر سخت کیا ہوا سیاہ ربڑ۔

ابونیہ جمع ابونیهات: چندہ، چندہ کا کارڈ۔

ابی: اَبَی ـِ اِبَاءً و اِبَاءَةً و تَاَبَّی الشیءَ: کو ناپسند کرنا، کو مکروہ جاننا، سے ناخوش ہونا، صفت: آبٍ جمع آبُون و اُباة و اُبَّاء واحد آبیة اَبَی الشیءَ علیه: کو سے روکنا۔ اَبَی علیه: سے رکنا۔ تَاَبَّی: سے رکنا، باز رہنا، آباه ایباءَ الشیءَ: کو سے روکنا۔ الأبِیّ واحد اَبِیَّة: نفرت کرنے والا، کمینہ باتوں سے اپنے آپ کو بلند رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے: نفسٌ اَبِیَّة: خوددار، کمینہ باتوں سے اپنے آپ کو بلند رکھنے والا شخص یا نفس۔ اَبَّاء: خوددار۔ رجل اَبَّاء: خوددار مرد۔

○ اَبَی ـَ اِبَاءً و اِبَاءَةً: انکار کرنا، مسترد کرنا ـ ہ: کو مسترد کرنا، کو حقیر سمجھنا، گھٹیا یا برا جاننا، توجہ کے لائق نہ سمجھنا۔ ـ علی ہ: کو کوئی چیز نہ دینا۔ اَبَی اِلَّا اَن یفعله: اس نے اسے کرنے پر اصرار کیا۔ اَبَی اللّٰہُ اِلَّا اَن: خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ـ تَاَبَّی: انکار کرنا، مسترد کرنا۔ اِبَاء و اِبَاءَة: استرداد، نامنظوری، ناپسندیدگی، نفرت، کراہت، بیزاری، حقارت، تحقیر، غرور، تکبر، نخوت۔ اَبِیّ: حقارت آمیز، حقیر یا برا جاننے والا مغرور، متکبر، بہت اونچا، اونچے ذہن کا۔ آبٍ جمع اُبَاة: کم آمیز، روکھا، خشک، نارضامند، غیر آمادہ، بیدل، کینہ رکھنے والا۔

ابیب: گیارہواں مہینہ (قدیم مصر کے مسیحیوں کی نسل کی جنتری کے مطابق)۔

○ ابیقوری: جویائے سرور، لذت طلب۔ ابیقوریة: لذت طلبی۔

اتب: ا۔ تَاَتَّبَ و اِئْتَتَبَ: بے آستین والی قمیص پہننا۔ الإتْب جمع اُتُوب و آتُب و اِتاب و آتاب: بے آستین کی قمیص۔

۲۔ أتابك: امیر، سردار۔ یہ لفظ دراصل بادشاہوں کی اولاد کے اتالیقوں پر بولا جاتا تھا (ترکی لفظ)

اتد: الإتاد: جمع آتِدَة و اُتُد: دودھ دوہنے کے وقت گائے کی ٹانگ باندھنے کی رسی۔

اترج: الأُتْرُج و الأُتْرُنْج: واحد الأُتْرُجَّة و الأُتْرُنْجة (ن): چکوترے کا درخت (اسے التُرُنْج بھی کہا جاتا ہے جبکہ عام لوگ اسے الکَبّاد کہتے ہیں)۔ چکوترہ۔

○ آتشجی: آگ بجھانے والا، کوئلہ دان، زغال دان۔

اتل: اَتَلَ ـِ اَتْلاً و اَتَلاناً و اتلالاً: غضب میں چھوٹے چھوٹے قدم چلنا۔

اتم: اَتَم ـُ اَتْمًا: دو چیزوں کو جمع کرنا۔ ـ بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا، دیر کرنا۔ المأتم جمع مَآتِم: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اس لفظ کا اطلاق بیشتر اس مجمع پر ہوتا ہے جو اظہار غم کے لئے ہو۔

اتن: اِسْتَأتَنَ: گدھی خریدنا۔ گدھی ہونا۔ کان حماراً فاستأتن: وہ گدھا تھا پھر گدھی ہوگیا۔ یعنی وہ عزت دار تھا پھر ذلیل (کمینہ حقیر) ہوا۔ الأتان جمع اُتُن و اُتْن و آتُن: گدھی۔

۲۔ الأتُّون جمع اُتُن و اَتَاتِین: حمام کا چولہا۔ چونا بنانے کی بھٹی۔ اسے اتون الکلس بھی کہتے ہیں۔

○ اتون جمع اُتُن و اَتاتِین: آوا، تنور، بھٹی۔

اتا: ا۔ اَتَا ـُ اَتْوًا و اِتَاءً الشجرُ: درخت میں پھل آنا، لگنا، بہت پھل لگنا۔ اِتَاء الأرض: زمین کی پیداوار یا روئیدگی۔ الإتاوة جمع اَتَاوِی: خراج۔

۲۔ اَتَا ـُ به و علیه: کی چغلخوری کرنا۔ الإتاوة جمع اَتَاوِی: رشوت۔ اَتَوْتُهُ اِتَاوَةً: میں نے اس کو رشوت دی۔

○ اِتَاوَة جمع اَتَاوِی: محصول، ٹیکس، خراج، باج۔

○ اتوبیس: بس، آٹوبس (موٹربس)۔

○ اتوماتیکی: خودکار، خودحرکی، آپ چالو (Automatic)۔

اتی: ا۔ اَتَی ـِ اِتْیَانًا و اِتْیًا و اِتْیَانَةً و مَأتَاةً: آنا۔ ـ المکان: کسی جگہ حاضر ہونا۔ ـ الرجلَ: کے پاس سے گزرنا۔ اِسْتَأتَی الرجلَ: کو سست سمجھنا۔ سے

آنے کی درخواست کرنا۔ الأَتِيّ و الأَتَاوِيّ: پردیسی، اجنبی، مسافر۔ سیلٌ اتیٌّ و أتاويٌّ: انجان جگہ سے آجانے والا سیلاب۔ المَأتی و المَأتاۃ: سمت، جہت، کہا جاتا ہے: أتى الأمرَ من مأتاہ او مأتاتہ: اس نے وہ کام اس کے ڈھب اور طریقہ سے کیا۔

۲۔ أتى ـِ الشيءَ: کسی چیز کو کرنا۔ ــ على الشيء: کو پورا کرنا، جاری و نافذ کرنا، اس کے آخر تک پہنچنا۔ أتى عليه الدهرُ: کو زمانہ نے ہلاک کردیا۔ أتّی تأتيةً و تأتّيًا الماءَ: پانی کے بہاؤ کے لئے راستہ نکالنا۔ آتی مُؤاتاۃً ہ على الشيء: سے پر موافقت کرنا۔ ــ إيتاءً اليه الشيءَ: کو کوئی چیز بھیجنا، کے کوئی چیز حوالے کرنا۔ ــ الرجلَ: کو بدلہ دینا، کے ساتھ چلنا (اگر یہ جارہا ہے)۔ ــ فلانًا لشيءٍ: کو کوئی چیز دینا۔ اسی سے ہے: آتِنا غداءَنا: ہمیں ہمارا ناشتہ دے، دوپہر کا کھانا دے۔ تأتّی الأمرُ: تیار ہونا، آسان ہونا۔ ــ للأمر: کی طرف مائل ہونا، کے لئے تیار ہونا۔ ــ لمعروفہ: کے درپے ہونا۔ ــ لہ: کو پیش آنا۔

○ أتى ـِ إتيانًا و أتيًا و مأتاۃً ہ یا الی: کے پاس آنا۔ ــ على: کو اتفاقاً ملنا۔ ــ ہ یا الی: کسی جگہ پہنچنا۔ أتى بہ: کو لانا، آگے لانا، آگے بڑھانا، وجود میں لانا، بنانا، تخلیق کرنا، کو انجام دینا، بجالانا، پورا کرنا۔ ــ ہ ب: کو کوئی چیز دینا، پیش کرنا۔ ــ ہ کو کرنا، بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، کی تکمیل کرنا، (گناہ، جرم) کا ارتکاب کرنا۔ ــ علی: کا ذکر کرنا، کو ہلاک کرنا، تباہ کرنا، کو ختم کرنا، مکمل کرنا، کی تکمیل کرنا، کو تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا، جڑ سے اکھیڑنا، کا استحصال کرنا، کا قلع قمع کرنا، کو ڈھوڈالنا، کو خارج کرنا، نکال دینا، کو رو میں بہا لیجانا، لیجانا، کو موقوف کرنا، منسوخ کرنا، سے پیچھا چھڑانا، پر جامع یا مکمل بحث کرنا، کو مکمل طور پر پیش کرنا، بالتفصیل پیش کرنا، کو تفصیل سے بیان کرنا۔ کما یأتی: جیسے کہ ذیل میں درج ہے۔ أتى على آخرہ: کو مکمل کرنا، ختم کرنا، کو آخر تک خرچ کرنا یا استعمال کرنا۔ أتى على الأخضر و اليابس: ہر چیز تباہ کردینا، تباہی مچانا۔ أتى البيوتَ من أبوابها: صحیح طریقے سے غور کرنا، صحیح دروازہ کھٹکھٹانا۔ يُؤتى مِن قِبَلِ (کی وجہ سے) اس کی جڑیں اندر ہی اندر کھوکھلی کی جارہی ہیں، کمزور کیا جارہا ہے، تباہ کیا جارہا ہے۔ آتی ہ ب: کو کوئی چیز پیش کرنا، مہیا کرنا، دینا، بہم پہنچانا۔ ــ ہ: کے لئے مبارک، مسعود یا نیک شگون والا ہونا، مناسب حال ہونا، کے موافق ہونا، کی مدد کرنا، سے ہمدردی کرنا، کے لئے اچھا ہونا، کی تائید میں ہونا، کے لئے موزوں ہونا، مناسب ہونا (خوراک کا) کسی کو موافق آنا، راس آنا۔ أتاہُ كُلُّ شيءٍ: ہر چیز اس کی تائید میں تھی، کیلئے اچھی نکلی، اسے پیش آئی۔ آتی ہ: کے پاس کچھ لانا، کو کچھ دینا، عطا کرنا۔ آتی الزکاۃ: زکوٰۃ دینا۔ تأتّی عن: سے وجود میں آنا، نکلنا، مشتق ہونا، پیدا ہونا، کا نتیجہ ہونا۔ ــ الی: تک جانا، پہنچنا۔ ــ کا کرنا آسان ہونا، کسی مشکل کے بغیر قابل عمل ہونا، قابل حصول ہونا، ترقی کرنا، اطمینان بخش ہونا۔ ــ في: کو احتیاط یا نرمی سے کرتے رہنا۔ استأتی ہ: کو آنے کے لئے کہنا، کو آنے کی ترغیب دینا۔ مَأتًی جمع مآتٍ: آنے کی جگہ، پہنچنے کی جگہ، راستہ، راہ، وسیلہ، سبیل، رسائی، پہنچ، رسائی کا ذریعہ، گزرنے کا حق یا ذریعہ، دسترس جمع مَآتٍ: اصل، اصل مقام، منبع، سرچشمہ، ماخذ، مقام ساخت، مقام پیدائش، وہ جگہ جہاں کوئی رہا ہو یا آیا ہو، وہ جگہ جہاں کسی چیز کا آغاز ہو، یا جہاں وہ ختم ہو۔ ــ آتٍ: آنے والا، آئندہ، ذیلی، ذیل کا۔ الأسبوع الآتي: آئندہ ہفتہ۔ کالآتي: حسب ذیل۔ مُؤاتٍ و مُواتٍ: موافق، مفید، مفید مطلب، امید افزا، مناسب حال، سازگار، سعید، مبارک، مسعود، ٹھیک، درست، مناسب، موزوں، بروقت، برمحل، آسان، معقول آرام دہ، مناسب موقع۔

اث: أثَّ ـِ أثًّا و أثوثًا و أثاثۃً النباتُ او الشعرُ: پودوں یا بالوں کا گنجان اور گھنا ہونا، بکثرت ہونا۔ صفت: أثٌّ و أثيثٌ جمع إثاث۔ أثَّ الفراشَ: بستر بچھانا، تیار کرنا ــ البیتَ: گھر میں نیا فرنیچر لگانا، گھر کو فرنیچر سے آراستہ کرنا۔ تأثّثَ: مال دار ہو جانا، فرنیچر لگنا، خوش حالی نصیب ہونا۔ الأثاث: فرنیچر، مال و دولت، ساز و سامان، ساز و یراق۔

○ أثَّ ـُ أثاثۃً (بالوں، پودوں کا) بافراط ہونا، بکثرت اگنا۔ أثّثَ ہ: کو تیار کرنا، لگانا، (کمرہ میں) فرنیچر لگانا، کمرہ کو فرنیچر سے آراستہ کرنا۔ تأثّثَ: امیر یا دولتمند ہونا یا ہوجانا، اقبال مند ہونا، پھلنا پھولنا، فرنیچر سے آراستہ ہونا۔ الأثاث: فرنیچر، ساز، ساز و سامان ساز و یراق۔ تأثيثٌ: فرنیچر لگانا، فرنیچر سے آراستہ کرنا۔ أثٌّ و أثيثٌ: بافراط، بکثرت اگنے والے (پودے، بال)۔

اثر: أثَرَ ـُ أثرًا و أثارۃً و أُثرۃً الحديثَ: حدیث (بات) بیان یا نقل کرنا صفت مفعول: مأثورٌ۔ السیفُ المأثور: قدیم اور موروثی تلوار۔ الأثر جمع آثار: کسی چیز کا اثر و نشان۔ سنت، حدیث، علمُ الآثار عند المسلمين: اگلی قوموں کی چھوڑی ہوئی یادگاروں کی معرفت مثلاً ان کے مکانات، مجسمے اور سکے۔

۲۔ أثَرَ ـُ أثرًا و أثارۃً و أثرۃً و آثَرَ إيثارًا ہ: کا اکرام و احترام کرنا۔ الأثارۃ و الأثرۃ جمع أُثَر و المأثَرَۃ و المأثُرۃ جمع مآثِر: موروثی شرافت و بزرگی، اچھا فعل۔ الأثيرُ جمع أُثَراء: باعزت و باشرف۔ رجلٌ أثيرٌ: باعزت و باشرف آدمی۔

۳۔ أثِرَ ـَ أثرًا عليهم: اوروں کو نظر انداز کرکے اپنے لئے بہترین چیزیں چھانٹ لینا۔ آثَرَ إيثارًا ہ: کو پسند کرنا، فضیلت و برتری دینا۔ إستأثَرَ بالشيء على الغير: دوسرے کے مقابلہ میں اپنے لئے کوئی چیز مخصوص کرلینا۔ کسی چیز میں خود کو دوسرے پر ترجیح دینا۔ الأَثَرَۃ: پسندیدگی، دوسرے کے مقابلہ میں اپنے لئے بہترین چیز پسند کرنا۔ خود کو دوسرے پر ترجیح دینا، انتہائی خود پسندی و خودغرضی۔

۴۔ أثِرَ ـَ أثرًا على الأمر: کا پکا ارادہ کرنا ــ للأمر: کسی کام میں یکسوئی کے ساتھ لگ جانا۔ ــ يفعلُ كذا: کو کرنے لگنا۔

۵۔ أثَّرَ فيه: میں اثر چھوڑنا، پر اثر انداز ہونا۔ آثَرَ إيثارًا كذا بكذا: کے ذریعے کے پیچھے لگنا۔ تأثَّرَ و انتثر منه و به: سے متاثر ہونا، میں کا اثر پہنچنا صفت: متأثِّرٌ۔ ــ فلانًا: کے نشان قدم پر چلنا، کی پیروی کرنا۔ الأثر جمع آثار و أُثور: کسی چیز کا اثر و نشان۔ (علم الآثار: اگلی قوموں کی چھوڑی ہوئی یادگاروں کی معرفت جیسے مکانات، مجسمے، حنوط کی ہوئی چیزیں اور سکے وغیرہ۔ الأثری: آثار قدیمہ کا ماہر۔ لغۃ الرب: آثار قدیمہ میں شمار زبان۔ ــ و الإثر کہا جاتا ہے: خرج في أثرہ و في إثرہ: وہ اس کے بعد نکلا۔ على الأثر: فوراً اور فی الحال۔) نشان۔ جیسے کہ اس ضرب المثل میں: يطلب أثرًا بعد عين: وہ اصل کے بعد نشان ڈھونڈ رہا ہے۔ (سانپ نکل گیا لکیر پیٹ رہا ہے)۔ الأثر و الأُثر جمع آثار و أُثور: زخم کا نشان۔ الأثارۃ و الأثرۃ جمع أُثر: بقیہ علم۔ أثيرٌ: اثر عظیم چھوڑنے والا۔ فرسٌ أثيرٌ: وہ گھوڑا جس کے کھروں کے نشانات بڑے ہوں۔ المأثرۃ و المأثُرۃ جمع مآثر: اچھا اثر چھوڑنے والا قابل تعریف فعل۔

۶۔ استأثَرَ اللهُ به: اللہ تعالیٰ کا کسی کو دنیا سے اٹھا لینا۔

وفات دینا۔ الأثَر: مدت۔

۷۔ الأثُر جمع اثُور و الأثِیر جمع اُثَراء: تلوار کا جوہر۔ الأثِیر (فلک): قدماء کے نزدیک نواں آسمان یا فلک (ف)۔ علماء طبیعات کی اصطلاح میں: اثیر (ایتھر) یعنی ایسا مادہ جو وزن کے تحت نہیں آتا اجسام میں سرایت کرتا ہے، جس کے تموج سے گرمی بڑھتی اور آواز دور تک جاتی ہے۔ الاثیرات الملحیة: (ک) پھولوں، پھلوں اور روغنی مادوں میں موجود عضوی مرکبات الأثْرجَة (ك): الکحل اور ایسڈ کا کیمیاوی عمل جس سے نمکیاتی اثیر اور پانی پیدا ہوتا ہے۔

○ اَثَرَ ـُ اَثْراً و اَثارَةً ه عن: کو سے یا کی سند سے نقل کرنا، بیان کرنا۔ اَثَّر في یا علی: پر اثر انداز ہونا، اثر ڈالنا، پر عمل کرنا، پر اثر کرنا، تاثر قائم کرنا، اثر رکھنا۔ آثَرَ ه علی: کو پر ترجیح دینا، کو سے زیادہ پسند کرنا۔ ـــ ه: کے لئے خصوصی پسند کا حامل ہونا، کو پسند کرنا، چاہنا، کا شائق ہونا، ـــ ان: کچھ کرنے کا انتخاب کرنا، کچھ کرنے کو دانشمندانہ، مناسب یا قرین مصلحت سمجھنا۔ ـــ ه یا ه: کی تعظیم کرنا، کا احترام کرنا، سے عقیدت رکھنا۔ آثَرَ نفسَهُ بالخیر: اپنے لئے خیر کی آرزو کرنا، اپنے لئے سب سے بہتری کی امید ہونا۔ تَأثَّر: متاثر ہونا، اثر ڈالا جانا، اثر پذیر ہونا۔ ـ ب / ل / من: سے جذبات ابھرنا، دل پر اثر ہونا ـــ ب: سے اثر پذیر ہونا۔ ـــ ه: کے نقش قدم پر چلنا، کی مثال پر رد عمل کرنا، کی ریس کرنا ـــ ه: کے بارے میں مزید تجسس سے کام لینا، کو محسوس کرنا، سمجھنا۔ استأثَرَ: اجارہ داری کا دعویٰ کرنا۔ ـــ ب: کا اکیلا مالک ہونا، قابض ہونا، کی اجارہ داری رکھنا، کا مالک بن بیٹھنا، پر بلا شرکت غیرے قابض ہونا ـــ ه: کو پہلے ہی قبضہ میں لے لینا، (توجہ کو) منہمک کرنا۔

اَثَر جمع آثار: لیک، راہ، آثار، نام و نشان، نشان، ہلکا سا اثر، چاشنی، (فنکار وغیرہ کا) ہاتھ، نقش، اثر، تاثر، عمل، حدیث، فنی تخلیق، قدیم یادگار۔ آثار: آثار قدیمہ، اثریات، بقایا، نام و نشان، (مذہبی) برکات، یادگاریں عِلمُ الآثار: علم آثار قدیمہ، اثریات۔ دارُ الآثار: آثار قدیمہ یا اثریات کا عجائب گھر بأثر رَجْعِی: پچھلے زمانہ سے نافذ ہونے کی طاقت کے ساتھ۔ لا اثر له: غیر موثر، بے کار، بے سود، بے تاثیر۔ أصبَحَ اثراً بعدَ عین: تباہ و برباد ہو جانا، مٹ جانا، یادوں کے سوا پیچھے کچھ نہ چھوڑنا۔ اعاده اثراً بعد عین: کو مکمل طور پر تباہ کر دیا علی اثرِه وفی اِثْرِه: کے قدموں کے نشان پر، کے پیچھے پیچھے، کے بعد، کے فوراً بعد، کے تھوڑی دیر بعد، پھر، اس کے بعد، بعد ازاں، علی الأثَر: فوراً بعد، تھوڑی دیر بعد إثْرَ: کے فوراً بعد، کے بعد ہی۔ أثَری: ماہر آثار قدیمہ۔ آثَارِی: ماہر آثار قدیمہ۔ آثَارِی: قدیم۔ عالم اثَری: ماہر آثار قدیمہ لغة اثَرية: مردہ زبان۔ اَثِر: خود غرضانہ، خود غرض، مطلبی، مطلب پرست۔ اَثَرَة: خود غرضی، مطلب پرستی أثِیر عند: کے ہاں زیادہ پسندیدہ زیادہ ترجیح والا، نوازش یافتہ، منتخب، پسندیدہ، چیدہ، دقیقہ رس، عالی دماغ أثَارَة: بقیہ: باقی ماندہ، بچا کھچا، ہلکا سا سراغ، کھوج، علامت، نشانی، ذرہ، نقش قدم، مأثُرة جمع مآثِر: کارنامہ، کار عظیم، بہادری کا کام، جلیل القدر کام سریع التأثر: آسانی سے متاثر ہونے والا۔ اثر پذیر تأثُرية: مصوری یا بیان کا طریقہ جس میں مجموعی اثر پر زور دیا جاتا ہے، نہ کہ تفصیلات پر۔ اثریت المذهبُ التأثری: مصوری یا بیان کے مندرجہ بالا طریقہ والی تحریک۔ قول مأثور اور کلمة مأثورة: ضرب المثال، کہاوت، مثل، مقولہ۔ مُؤَثِّر: اثر ڈالنے والا، عمل کرنے والا، کاری، کارگر، موثر، تیر بہدف، مجرب، پر اثر، دلنشین، دلگداز، رقت انگیز، پر درد، دل پر اثر کرنے والا، دلسوز، جذباتی۔

اثف: أثَفَ ـِ اُثُفاً: کے پیچھے جانا، کو طلب کرنا۔ اثَّفَ تأثِيفاً القِدرَ: ہانڈی کو چولہے پر رکھنا۔ تأثَّفَ الرجلُ المكانَ: کسی جگہ میں رہنا۔ القومُ الأمرَ وعليه: لوگوں کا کسی کام پر اکٹھا ہونا۔ الأثْفِيَّة والإثْفِيَّة جمع أثَافي: پتھر جس پر ہانڈی رکھی جاتی ہے۔ جماعت۔ ثالثةُ الاثافي: پہاڑ کا ایک حصہ جس کے سامنے دو پتھر رکھ کر اس پر ہانڈی رکھتے ہیں۔ رماه اللّٰه ثالثة الاثافي: خدا کرے وہ بڑی مصیبت میں پڑے۔

○ اُثْفِيَّة جمع اثافِي: آتش دان میں لگی ہوئی لوہے کی تپائی، تپائی، تین پائے کی میز، چولہے کے تین پتھروں میں سے ایک جن پر ہانڈی رکھی جاتی ہے۔ ثالِثةُ الاثافي: بیش قرار انعام والی فنکاری۔

اثل: ۱۔ اَثُلَ ـُ و اَثَلَ ـِ أثالةً و اُثُولاً: شرافت میں جڑ پکڑنا صفت اثيل و مُؤَثَّل۔ اثَّلَهُ: کی اصل اور اس کی پاکیزگی واضح کرنا۔ ـــ المرءَ: کی تعظیم کرنا ـــ المجدَ: بزرگی کی بنیاد رکھنا۔ تأثَّل: جڑ پکڑنا۔ الأثَلَة والأثْلَة: اصل۔ الأثْلَة و الأثَال و الأثَال: موروثی مال، شرافت یا بزرگی، کہا جاتا ہے

أثَلَهُ: اس نے اس پر عیب لگایا اور اس کو کم قدر کیا۔

۲۔ اَثَلَ ـِ اُثُولاً و اَثُلَ ـُ أثَالةً: زمین میں جڑ پکڑنا صفت: اثيل و مُؤَثَّل۔ تأثَّل: جڑ پکڑنا۔ ـ البئرَ: کنواں کھودنا۔

۳۔ أثَّلَ المالَ: مال کی زکاۃ دینا، مال کو بڑھانا۔ تأثَّل: جمع ہونا، ـ المالَ: مال کمانا اور اس کو بڑھانا الأثَلَة و الأثْلَة: گھر کا ساز و سامان۔ ساز و یراق۔

۴۔ الأثْل واحد أثْلَة: جمع اثَلات و آثال و اُثُول: جھاؤ کا درخت۔

○ أثَلَ ـِ اثالَة و اُثُولاً: مستحکم ہونا، مضبوط ہونا۔ أثَّل: دولتمند ہو جانا۔ تأثَّلَ: مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، دولتمند ہو جانا۔ أثْل جمع اُثُول: اسم جنس واحد اثْلَة جمع اَثَلات: سمندر کے کنارے کی ایک جھاڑی جس پر سفید اور گلابی پھول آتے ہیں اور جس کے پتے نرم ہوتے ہیں۔ اثيل و مُؤَثَّل: جس کی بنیاد گہری ہو شریف الاصل، خاندانی۔

اثم: أثِمَ ـَ إثْماً و أثَماً و اثاماً و مأثَماً: گناہ کرنا، ناجائز کام کرنا صفت: اثِيم: جمع أثَماء و آثِم جمع أثَمَة۔ أثَمَ ـِ أثْماً اللّٰهُ فلاناً في كذا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو کسی چیز میں گناہ گار ٹھہرانا اور سزا دینا أثَّمَهُ: کی طرف گناہ منسوب کرنا۔ آثَمَهُ: کو گناہ میں مبتلا کرنا۔ تأثَّمَ: گناہ سے بچنا، رکنا، گریز کرنا۔ الإثْم جمع آثام: ناجائز کام، خطا جرم، گناہ المأثَم و المأثَمة جمع مآثِم: گناہ، جرم خطا، ناجائز فعل۔

○ أثِمَ ـَ إثْماً و أثَماً و مأثَماً: گناہ کرنا، غلطی کرنا، چوک جانا۔ تأثَّم: گناہ سے بچنا، معصیت سے اجتناب کرنا، اپنے آپ کو حد کے اندر رکھنا، رکنا، ہچکچانا۔ إثْم جمع آثام: گناہ، جرم، خباثت۔ مأثَم جمع مآثِم: بمعنی اِثم۔ تأثِيم: بمعنی اِثم۔ آثِم جمع أثَمَة و أثِيم جمع أثَماء: گنہگار، مجرم، برا، بد، فاسق، بد اعمال، بدنیت۔

○ إثْمِد: سرمہ۔

اثن: الأثْنُولَوجيا: علم الانسان، انسانی نسلوں کی خصوصیات اور ان کے باہمی تعلقات کا علم۔ (ethnology)

○ أثِير: ایتھر (ether)

○ اثينا: ایتھنز Athens

○ أثْيُوبيا: ایتھوپیا Ethopia اثْيُوبِي: ایتھوپیا کا (باشندہ) جمع اثْيُوبِيُّون البلاد الأثْيُوبِيَّة: ایتھوپیا (Ethopia)

اثا: أثا ـُ اَثْواً و إثاوَةً به و أثَى ـِ أثْياً و إثايَةً به: کی چغلی کھانا، پر تہمت لگانا۔ تأثُوا و تأثوا بادشاہ کے

پاس مقدمہ لیجانا۔ المَاثِیَة و المَاثَاة جمع مَآثٍ: چغل خوری۔

اج: ا۔ اَجَّ ــُ اُجُوجًا الماءُ: پانی کا کھارا اور کڑوا ہونا۔ آجَّ الماءَ: پانی کو کھارا اور کڑوا بنانا۔

۲۔ اَجَّ ــُ اَجِیْجًا: (آگ کا) بھڑکنا، شعلہ مارنا صفت: اَجَّاج و اَجُوج۔ اَجَّجَ النارَ: آگ کو بھڑکانا۔ تَاَجَّجَ و تَاجَّ وائتَجَّ: بھڑکنا، شعلہ زن ہونا۔ ــ ت النارُ: آگ کا سخت گرم ہونا۔ الأَجَّة جمع اِجَاج: گرمی کی شدت اِشتَدَّتِ اجَّة الصیف: موسم گرما کی گرمی کا تیز ہونا۔ الأَجِیج: گرمی کی شدت۔ اجیج النار: آگ کی شدت۔

۳۔ أَجَّ عَلَی العدوّ: دشمن پر حملہ کرنا۔ الأَجَّة والأَجِیْج: شور، چلنے کی آہٹ، اجیجُ القوم: لوگوں کا شور۔ اجیج الماء: پانی بہنے کی آواز۔

○ أَجَّ ــِ أَجِیْجًا: جلنا، بھڑکنا، شعلہ زن ہونا، روشن ہونا (آگ کا)۔ أَجَّجَ ہ: آگ روشن کرنا، جلانا، سلگانا، لگانا۔ تَأَجَّج بمعنی أَجَّ ماءٌ اُجَاج: کڑوا، کھارا پانی۔ اَجَّاج: گرم، روشن، شعلہ زن، جلتا ہوا، مُتَاجِّج: جلتا ہوا، شعلہ زن، نہایت گرم۔

☆ أَجَبَة: Horologium۔ وقت بتانے کا آلہ۔

اجد: اَجَدَ و آجَدَ و أَجَّدَهُ: کو قوی اور مضبوط کرنا۔

أُجُد: قوی (مونث) ناقةٌ أُجُد: مضبوط اونٹنی۔ الاجاد (ب) چھوٹا طاق۔ المُؤجَّد: مضبوط کیا ہوا۔ بِناءٌ مُؤجَّد: مضبوط عمارت۔ ثوبٌ مُؤجَّدُ النسیج: مضبوط بنا ہوا کپڑا۔

اجر: ا۔ اَجَرَ ــُ اَجْرًا و اِجَارَةً و آجَرَ اِیجارًا الرجُلَ علی کذا: کو کا بدلہ دینا، کو کی مزدوری دینا۔ اِئتَجَرَ: صدقہ کرنا، خیرات کرنا، مزدوری مانگنا۔ الأَجْر جمع اُجُور و آجار: ثواب، انعام، معاوضہ، مزدوری۔

۲۔ آجَرَ مُوَاجَرَةً و اِستَاجَرَ الرجُلَ: کو مزدور بنانا۔ الاِجَارَة والأُجْرَة جمع أُجَر: مزدوری۔ الأَجِیر: مزدور۔ ج أُجَرَاء۔

۳۔ آجَرَ اِیجارًا الدارَ فلانًا و من فلان: گھر کو کسی کو کرایہ پر دینا صفت مُؤجِر (نہ کہ مُواجر) اِستَاجَرَ الدارَ: گھر کو کرایہ پر لینا۔

۴۔ أَجَرَ ــِ أَجْرًا و أَجَارًا و أُجُورًا العظمُ: ہڈی کا جڑ جانا۔ ــ العظمَ: ہڈی کو جوڑنا۔

۵۔ أَجَّرَ الطینَ: مٹی کو پکانا مٹی کو پکا کر اینٹ بنانا۔ الآجُرَّة جمع الآجُرّ: اینٹ، عام لوگ اسے قرمید کہتے ہیں۔

○ اَجَرَ ــُ أَجْرًا ہ: کو انعام دینا، بدلہ دینا، اجر دینا، معاوضہ ادا کرنا، أَجَّرَ ہ: کو کرایہ پر دینا، پٹے پر دینا، ٹھیکہ پر دینا، کرائے پر اٹھانا۔ اَجَّرَ نفسَهُ: اپنے آپ کو بھاڑے پر دینا۔ آجَرَ ہ: کو کرایہ پر دینا، پٹے پر لینا، کرایہ پر لینا۔ ــ ہ: کو اجرت پر رکھنا۔ اِستَاجَرَ ہ: کو کرایہ پر لینا، کو مزدوری پر رکھنا۔ اَجْر جمع اُجُور: مزدوری، تنخواہ، محنتانہ، انعام، معاوضہ، ہرجانہ، مشاہرہ، اجرت، قیمت، فیس، محصول۔ اُجُورُ السفر: سفر کا کرایہ۔ اُجرَة: کرایہ، امکانی کرایہ، اُجرت، قیمت، محصول، فیس، مقررہ محصول (سرکاری) خرچ، محصول ڈاک، اجرةُ البرید: محصول ڈاک اجرةُ النقل: نقل وحمل کے اخراجات، کرایہ، بھاڑا، چھکڑے کا کرایہ، باربرداری کا خرچ۔ أَجِیر جمع أُجَرَاء: بھاڑے کا ٹٹو، کام کرنے والا، مزدور، دیہاڑی پر مزدوری کرنے والا، ملازم، اَجِیرَة: کام کرنے والی عورت، کارخانہ میں کام کرنے والی، عورت مزدور، ملازمہ۔ تَاجِیر: کرایہ پر دینا، مَشرُوعُ التَاجِیر والاِعَارَة: Lend Lease Act۔ اِیجار جمع اِیجارات: کرایہ، کرایہ پر دینا، لِلْاِیجار: کرایہ پر، کرائے کیلئے۔ اِجَارَة جمع اِجارات: کرایہ، کرایہ پر دینا، اِستِئجار: کرایہ، پٹہ، لگان داری کی مدت یا شرائط۔ مَاجُور: تنخواہ دار ملازم، منفعت بخش طور پر ملازم رکھا ہوا، بھاڑے کا سپاہی، محض پیسے کے لالچ میں کام کرنے والا، زرخرید، روپے پر بکا ہوا، بھاڑے کا ٹٹو، ضمیر فروش، کرایہ پر لیا ہوا، رشوت دیا ہوا۔ مُؤجِر جمع مُؤجِرُون: مالک مکان، زمیندار، پٹے پر دینے والا۔ مُستَاجِر: پٹے پر لینے والا، کرایہ دار، ملازم رکھنے والا۔ آجُرّ (واحد آجُرَّة) پکی اینٹ۔

اَجْزَاجی جمع اجزاجیة: پنساری، عطار، دواساز، دوا فروش۔ اجزا خانہ: دواؤں کی دکان، عطار خانہ، عطار کی دکان۔

اجص: الإجَّاص واحد اِجَّاصَة (ن): آلوبخارے کا درخت، زرد آلو کا درخت، آلوبخارا، زرد آلو۔

○ اِجَّاص: ناشپاتی، ناشپاتی کا پیڑ۔

اجل: ا۔ اَجَلَ ــِ اَجْلًا علیہ شرًّا: کے خلاف شر اٹھانا۔ الأَجْل: أَجَلَ کا مصدر پہلے اسے برائی کی وجہ بتانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا بعد ازاں ہر کام کے سبب کے معنی میں لیا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے: من أَجلِكَ و لِأَجلِكَ فعلتُ هذا: یہ میں نے تمہاری وجہ سے کیا۔

۲۔ أَجِلَ ــَ أَجَلًا: دیر کرنا، تاخیر کرنا۔ أَجَّلَ الشيءَ: کی مدت مقرر کرنا، کو مہلت دینا ملتوی کرنا۔ أَجَّلُوا الاجتماعَ: انہوں نے جلسہ ملتوی کر دیا۔ تَاَجَّلَ: پیچھے رہنا، مہلت مانگنا۔ اِستَاجَلَ: تاخیر چاہنا، مہلت طلب کرنا الاَجَل جمع آجَال: موت، موت کا وقت۔ الآجِل و الآجِلَة: دیر سے ہونے والا۔ آخرت۔ التَاجِیل: تاخیر۔ تاجیل الجلسة او المحاکمة: جلسے یا عدالتی کارروائی کا التواء۔

۳۔ أَجِلَ ــَ أَجَلًا: گردن کے درد میں مبتلا ہونا صفت: اَجِل و اَجِیل۔ أَجَّلَ الرجُلَ: کی گردن کے درد کا علاج کرنا۔ الإجْل: گردن کا درد۔

۴۔ أَجَل: ہاں

۵۔ الإِجْل: نیل گایوں کا گلہ۔

○ اَجِلَ ــَ اَجَلًا: ہچکچانا، دیر کرنا، سستی کرنا، دیر لگانا۔ أَجَّلَ ہ اِلی: کو تک موخر کرنا، ملتوی کرنا، ٹالنا، موقوف رکھنا، میں تک تاخیر کرنا، کو تک لٹکائے رکھنا، روکے رکھنا۔ تَاَجَّلَ الی: تک ملتوی ہونا، موخر ہونا، موقوف رکھا جانا، ٹلنا۔ اِستَاجَلَ ہ: کو ملتوی کرنے کی درخواست کرنا، کو موخر کرنے کی کوشش کرنا۔ اَجَل: ہاں، بے شک، یقینا، لِأَجلِ یا مِن اَجلِ: کی وجہ سے، کے باعث، کے سبب سے، کے لئے، کے واسطے، کی خاطر لِأَجلِ أن: تاکہ۔ مِن اجلِ هذا: اس لئے، لہٰذا، اس وجہ سے، اس سبب سے۔ أَجَل جمع آجَال: مقررہ وقت، تاریخ، آخری مدت، موت کا وقت، تاخیر، مہلت، بِالأَجَل: ادھار، قرض پر۔ قَصِیرُ الأَجَل: مختصر مدت کا اِلی اَجَلٍ غیرِ مُسَمًّی: غیر معین مدت تک یا کے لئے، آئندہ اطلاع تک۔ آجِل: موخر، بہت طول پکڑ جانے والا، تاخیری، موقوف رکھا ہوا، بعد میں، آئندہ ہونے والا، مستقبل کا۔ عاجلا او آجلا اور فی عاجلہ او آجلہ: جلد یا بدیر، دیر سویر، کبھی نہ کبھی، فی العَاجِل والآجِل: اب اور آئندہ۔ الآجِلَة: آخرت مُؤَجَّل: موخر، دیر سے، ملتوی، تاخیری، مقررہ وقت میں، آخری مدت میں۔

اجم: ا۔ اَجَمَ ــِ أَجْمًا و أَجِمًا و أُجُمًا النهارُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ تَاَجَّمَ النهارُ: دن کا سخت گرم ہونا ــ علیه: پر غضبناک ہونا۔

۲۔ تَاَجَّمَ الأَسَدُ: شیر کا جھاڑی میں داخل ہونا الأَجَمَة جمع أَجَم و أُجُم و جمع آجام: شیر کے رہنے کی جگہ، گنجان درخت، جھاڑی الأُجُم جمع آجام: قلعہ۔

○ اَجَمَة: (اسم جنس) اَجَم جمع اَجَمَات و أُجُم و آجام: گنجان جھاڑیاں، جنگل، درختوں کا جھنڈ، درختوں اور جھاڑیوں کا علاقہ۔ نرسل، سرکنڈے۔ اَجَمِیَّة: ملیریا بعُوضَةُ الاجمیة: ایک قسم کا مچھر

جس سے لیر یا پیدا ہوتا ہے۔

اجن: ا۔ أَجَنَ ـُ أَجْنًا و أُجُونًا و أَجِنَ ـَ أَجَنًا الماءُ: پانی کا رنگ اور مزہ بدلنا۔ صفت: آجِن و أَجِن۔

۲۔ أَجَنَ ـُ أَجْنًا الثوبَ: کپڑے کو دھونے کے لئے کوٹنا۔ الإجّانة جمع أَجَاجِين: کپڑے دھونے کا ٹب۔ بڑا مرتبان۔ المِئْجَنَة و المِئْجَن جمع مَآجِن: کپڑے کوٹنے کی موگری۔

○ آجِن: کھاری، نمکین (پانی)

○ اجِنْدَة: نوٹ بک

اجّ: أَجَّ ـُ أَجًّا: کھانسنا۔ الأُجَاج: پیاس، غصہ، غیظ۔ الأَجِيج والأَجِيجَة: غصہ، غیظ۔

احد ا۔ أَحَّدَ و وَحَّدَ المُتَعَدِّد: متعدد کو ایک کرنا۔ (جیسے آپ کہتے ہیں: ثَنَّاه، ثَلَّثَهُ: اس نے اسے دو یا تین بنا دیئے)۔ ـ العددَ (ع ح): کسی عدد پر ایک بڑھا دینا آپ کہتے ہیں احدتُ العشرة: میں نے دس کو گیارہ بنا دیئے۔) إتَّحَدَ به: کے ساتھ ایک ہونا، متحد ہونا۔ إتَّحَدَ الماءُ بالخمر: پانی شراب میں مل گیا۔ اتحد الفريقان: دونوں فریق متفق ہو گئے۔ إستَأحَدَ: اکیلا ہونا۔ الأحَد مونث إحْدَى جمع آحاد: ایک اکیلا، یکتا۔ (ع ح): پہلا عدد (کہا جاتا ہے: الآحاد: (کئی ایک) جیسے کہا جاتا ہے العشرات: کئی دس، دسیوں، المئات: کئی سو، سینکڑوں)۔ فلانٌ أحَدُ الاحدين: فلاں بے مثل ہے)۔ يوم الأحد: اتوار۔ إحدَى الإحَد: بڑا نفرت انگیز معاملہ۔ جاءُوا أُحَادَ أُحَادَ یا أُحَادَ أُحَادَ: وہ ایک ایک کر کے آئے۔ الأَحَدِيَّة: یکتائی۔

۲۔ وَحَّدَ اللّٰهَ: دیکھو مادہ وحد۔ الأحَد: اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے: ایک اکیلا، یکتا۔ التوحيد: ایک معبود کی عبادت، اس کی ضد إشراك ہے۔ المُوَحِّد: ایک خدا کو ماننے والا اس کی ضد مُشْرِك ہے۔

○ أحَّدَ ہ: کو ایک کرنا، متحد کرنا، یکساں کرنا إتَّحَدَ: دیکھو مادہ وحد۔ أحَد مونث إحْدَى: ایک، کوئی شخص۔ الأحَد: ایک (خدا): اتوار، أحَدُهُم: ان میں سے ہر ایک۔ يوم الأحد: اتوار۔ احد السَّعَف: Palm Sunday، احدُ العَنْصَرة: اتوار جس میں رسم اصطباغ ادا کی جاتی ہے۔ احادُ الألوف: کئی ہزار (9 ہزار) اَحَدِي: اتوار کا، عیسوی، اَحَدِيَة: وحدت، ایک ہونا، الآحاد: اکائیاں (حساب)۔

احن: أَحِنَ ـَ أَحَنًا: اپنی دشمنی اور کینے کو پوشیدہ رکھنا۔

آحَنَ مُؤَاحَنَةً الرجلَ: سے دشمنی رکھنا۔ الإحْنة جمع إحَن: کینہ۔

○ احِنَ ـَ أَحَنًا على: سے نفرت کرنا إحْنَة جمع إحَن: پرانا خاندانی جھگڑا، گہری جڑوں والی نفرت۔

اخبط: اخْبُوط و أُخْطُبُوط (ح): سمندری جانور کھانے والا ہشت پا جانور۔

○ اخطبوط: ہشت نیش یا ہشت پا صدفہ، عالمگیر اثر کی حامل ظالمانہ منظم قوت (Octopus)۔

اخذ: ا۔ أخَذَ ـُ أخْذًا و تَأْخاذًا: لینا۔ ـ ہُ: کو پکڑنا۔ ـ من شاربه: مونچھیں کترنا۔ ـ ت فيه الخمرُ: پر شراب کا اثر انداز ہونا۔ ـ عنهُ: سے نقل کرنا، سیکھنا، علم حاصل کرنا، ہم کہتے ہیں: اخذ عن كتب الاولين: اس نے اسلاف کی کتابوں سے نقل کیا۔ اخذ عنه الجبرَ و الهندسةَ: اس نے اس سے الجبرا اور جومیٹری کا علم حاصل کیا۔ سیکھا۔ ـ إخْذَهُ و بـإخْلِهِ: کے طریقے پر چلنا، کے اخلاق کو اپنانا، کے رنگ میں رنگ جانا۔ ـ على يده: کو اس کام سے باز رکھنا جو وہ کرنا چاہے۔ ـ على نفسِهِ: عہد کرنا۔ إتَّخَذَهُ و تَخِذَهُ ـَ تَخْذًا صديقًا: کو دوست بنا لینا الأخِيذ جمع أخذى: قیدی الأخيذة: مال غنیمت، لوٹ کا مال، دشمن سے چھینا ہوا مال، غصب کیا ہوا مال۔ المَأخذ جمع مآخِذ: کوئی چیز لینے یا اخذ کرنے کی جگہ، وقت اور طریقہ، راستہ۔ المَآخِذ: چشمے، منابع، کانیں، طریقے (مآخذ اللؤلؤ في الخليج العربي: خلیج عرب میں موتیوں کے سرچشمے)۔ تحصیل علم کے منابع، کتاب کے مآخذ۔

۲۔ أخَّذَهُ: پر جادو کرنا، کو مسحور کرنا۔ الأُخْذَة: منتر۔

۳۔ أخَذَ ـُ أخْذًا و تَأخاذًا بذنبه: کو اس کے گناہ پر سزا دینا، سے مواخذہ کرنا۔ آخَذَهُ مُؤَاخَذَةً: کو ملامت کرنا، پر عتاب کرنا۔ ـ على ذنبهِ بِذنبِهِ: کو اس کے گناہ پر سزا دینا۔

۴۔ إتَّخَذَ: دبنا۔ إستَأخَذَ: دبنا، درد کی وجہ سے سر جھکانا۔ الأخِذَة (طب): بے حسی یا اعضاء کا سن ہونا الأُخُذ (طب): آشوب چشم۔

۵۔ أخَذَ ـُ يفعل: کرنے لگنا۔ ـ في كذا: کو شروع کرنا۔

۶۔ الإخَاذة جمع إخَاذَات و إخَاذ اور اخاذ کی جمع أُخُذ و أُخْذ: تالاب نما نشیبی جگہ جس میں پانی جمع ہو۔

○ أخَذَ ـُ أخْذًا ہ من: کو سے لینا، کو میں سے لینا۔ ـ ہ: کو ساتھ لیجانا۔ ـ ہ من: کو سے حاصل کرنا وصول کرنا۔ ـ ہ: کو زبردستی لے لینا، پر قبضہ کرنا۔ ـ ب: کو زبردستی چھیننا، ہتھیانا، ہتیانا، کو پکڑنا۔ ـ ہ (آنکھ کا) کسی کو دیکھ لینا۔ دیکھنا۔ ـ ہ من: کو سے لگنا، خیال کرنا، سمجھنا، نتیجہ اخذ کرنا یا نکالنا، استنباط کرنا: ـ ہ من: کو کے بین السطور پڑھنا یعنی تحریر کا پنہاں مفہوم پا لینا۔ ـ ب: کو مسحور کرنا، میں جذبات کی لہر دوڑا دینا، کو لبھانا، موہ لینا، فریفتہ کرنا، کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے رکھنا۔ ـ ب (طریقہ) اپنانا، حاصل کرنا۔ ـ ب: سے وابستہ رہنا۔ ب: کو اختیار کرنا، کی نقل کرنا، قبول کرنا، پر عمل کرنا، پر عمل پیرا ہونا، کو سنبھالنا۔ ـ ب إلى: کو تک لیجانا، کی تک رہنمائی کرنا۔ ـ ہ ب: پر کسی کام کے لئے زور دینا۔ کو کی نصیحت کرنا، کو پر مجبور کرنا، کو کا حکم دینا، کو کی ہدایت کرنا، پر کچھ عائد کرنا۔ ـ على ہ: سے کچھ لیجانا، کو سے محروم کرنا، کو سے روکنا، کو کا الزام دینا، کو کیلئے قصوروار ٹھہرانا۔ کو پر ملامت کرنا۔ ـ على أن: پر الزام لگانا، اس حقیقت کے لئے کہ، ـ على ب: کو پر مجبور کرنا (قانونی یا اخلاقی طور پر)، ـ على عن ہ سے کوئی چیز سیکھنا۔ ـ عن / على: سے علم حاصل کرنا اخذ العلم عنه: کے تحت پڑھنا، سے پڑھنا۔ ـ في / ب: کو شروع کرنا، کو کرنا شروع کرنا، کچھ کرنے کے لئے تیار ہونا، روانہ ہونا، کو کرنے کا ارادہ کرنا یا کرنے کے قریب ہونا۔ اخَذَ اُهْبَتَهُ: تیاریاں کرنا، تیار ہونا۔ اخَذَ مأخَذَ فلان: کا راستہ اختیار کرنا کی مثال پر عمل کرنا۔ أخَذَ منه مأخَذًا: (احساس کا) کسی کو گرفت میں لینا، یا اس کو قبضہ میں کرنا۔ اخَذَ مَجْرَاهُ: اپنا راستہ لینا۔ اخَذَ مَجْلِسَهُ: بیٹھنا، نشست لینا۔ أخَذَ حِذْرَهُ: چوکنا، چوکس یا ہوشیار ہونا۔ اخَذَهُ بالحُسْنَى: کے ساتھ دوست جیسا ہونا، خوش اخلاق ہونا۔ اخذ بخاطره: کی جانب با مروت یا با اخلاق ہونے کا مظاہرہ کرنا، کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ اخذ بذنبه: کو اس کی خطا پر سزا دینا اخذ رأيه: کی رائے طلب کرنا سے مشورہ کرنا اُخِذَ الرأيُ عليه: معاملہ پر ووٹنگ کرائی گئی۔ اخَذَ بأسباب: کو اختیار کرنا، قبول کرنا أخَذَ بأسبابِ الحضارةِ الأوروبية: یورپی کلچر اختیار کرنا أخَذَهُ بالشِّدَّة: سے سختی کے ساتھ پیش آنا، کے لئے صورت حال مشکل یا ناخوشگوار بنانا۔ اخذ عليه طريقه: کا راستہ روکنا، کی راہ میں حائل ہونا أخَذَهُ على عاتِقِهِ: کی ذمہ داری لینا۔ اخَذَ العُدَّةَ لِ: کو کرنے کے لئے تیار ہونا۔ اخذ عليه عهدًا: پر ذمہ داری عائد کرنا۔ اخَذَ على

(حِين) غِرَّةٍ: اچانک، غیر متوقع طور پر لیا جانا، بے خبری میں پکڑا جانا اخذ بالمقابلة: جنس کے بدلے جنس چکانا، ادا کرنا شیئٍ یا اخذُ القلوب: دلوں کو موہ لینے والی چیز۔ مسحور کن یا ہیجان خیز چیز۔ أَخَذَنَا المطرُ: ہم بارش میں قابو آگئے۔ اخذ بناصرہ: کی مدد کرنا، کا ساتھ نہ چھوڑنا، کی دیکھ بھال کرنا، کا خیال رکھنا، کی بہبود یا برتری کے لئے کوشاں ہونا۔ اَخَذَ نَفَسَهُ: گہرا سانس لینا۔ اَخَذَ عَلَيهِ اَنْفَاسَهُ: کو بہت حیران یا خوش کر دینا۔ أَخَذَهُ النومُ: نیند نے اسے گھیر لیا۔ اَخَذَ بِيَدِهِ: کی مدد کرنا، کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ أَخَذَهُ: کو سحر زدہ کرنا، لبھانا، رجھانا، فریفتہ کرنا۔ آخَذَهُ علی/ب: کو کیلئے الزام دینا، قصور وار ٹھہرانا، پر کے لئے ملامت کرنا، کے لئے مذمت کرنا، پر کا الزام لگانا، کو کے لئے سزا دینا۔ ۔ علی ہ: سے کسی میں خفا ہونا، کو کسی میں حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ لا تؤاخذني: معاف کیجئے، مجھے امید ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اِتَّخَذَ ہ کو لینا، ذمے لینا، اختیار کرنا، (وقت) لینا، (قرارداد) پاس کرنا، اختیار کرنا۔ ۔ ہ ہ یا ہہ: کو بطور قبول کرنا، برداشت کرنا، کو بطور ...... چننا، ۔ ہ کو استعمال کرنا۔ (کسی کے انداز تکلم کی) نقل کرنا اِتَّخَذَ شكلاً: شکل اختیار کرنا اِتَّخَذَ موقفًا: رویہ یا موقف اختیار کرنا اتخذ التدابير اللازمة: ضروری اقدامات اختیار کرنا اتخذ قرارً: قرارداد پاس کرنا، اختیار کرنا۔ اتخذ المواقع الجديدة: (فوجوں کا) نئی پوزیشنوں پر قابض ہونا۔ اخذُ الرأي: ووٹنگ، ووٹ اخذٌ وردٌّ: بحث مباحثہ، شیئٌ لا يقبل اخذًا و لاردًا: حتمی چیز۔ اخذ وعطاء: مصالحانہ رویہ، تجارت، لین دین، (تجارتی) تعلقات، بحث، مباحثہ، لڑائی، جنگ، اُخْذَة: سحر، جادو، افسوں، منتر، ٹونا، ٹوٹکا، تعویض، گنڈا۔ أَخِيذ: جنگی قیدی اَخِيذَة: مال غنیمت لوٹ کا مال، لوٹ کھسوٹ۔ اَخَّاذ: دل فریب، موہنا، دل موہ لینے والا، گرویدہ کرنے والا، ہیجان خیز۔ مَأْخَذ جمع مَآخِذ: وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز لی جائے۔ سرچشمہ، منبع، دیوار کی سوکٹ، نکلنے کا راستہ، اختیار، ادھار لینا، قرض، انداز عمل، طریقہ کار کا انداز، راہ، راستہ، گزرگاہ، پہنچ، رسائی جمع مَآخذ: ماخذوں کے حوالے، کتب خانہ، کتابیات، کتب نما، لائق ملامت نقاط، غلطیاں، خرابیاں، عیوب، نقائص، خامیاں یا کمزوریاں۔ المآخذ الأقرب: سادہ ترین، آسان ترین راستہ، قريبُ المأخذ: استعمال میں آسان، کام لینے میں آسان۔ مُؤاخذہ: اعتراض، الزام، ملامت، زجرو، توبیخ۔ لامُؤاخذة: معاف کیجئے، مجھے امید ہے کہ کوئی جرم نہیں کیا گیا۔ مأخوذ: لیا گیا، گرفت کیا گیا، غیر متوقع یا اچانک جالیا گیا، پکڑا گیا، پھندے میں پھانسا ہوا، حیران و بھونچکایا ہوا۔ ۔۔۔ ب: سے مسحور، کو دلکش یا دلچسپ پانے والا مأخوذبه: نافذ، قانونی۔ مأخوذات: وصولی کل آمدنی، مجموعی یافت نفع: منافع، آمدن (تجارتی اصطلاحات میں)۔

اخر ۔ا۔ أَخَّرَہ تأخيرًا عنه: کو سے پیچھے ہٹانا۔ تَأَخَّرَ و إسْتأخَرَ: پیچھے رہنا۔ الأخر جمع آخَرُون: مونث أُخْرَى و أُخراة جمع أُخَر و أُخْرَيَات: غیر، دوسرا، دیگر جاء نی رجُلٌ و آخرُ معه میرے پاس ایک آدمی اور ایک دوسرا اس کے ساتھ آیا۔ یہاں دوسرا بھی اس آدمی کی جنس سے ہے۔ جبکہ غیر مطلق مطابقت کے لئے ہوتا ہے۔ کنایہ کے طور پر کہا جاتا ہے: أَبْعَدَ اللّٰهُ الآخَرَ: اللہ اس شخص کو دور کرے جو ہم میں سے نہیں ہے۔ الآخِر جمع آخِرون م اُخْرَى جمع أُخْرَيات: دوسرا پچھلا (پہلے کی ضد) لاافعلُهُ آخِرَ الدهر و اُخرى الليالي: میں اس کو کبھی نہیں کرونگا۔ الأُخُر: پچھلا حصہ۔ شَقَّ الثوبَ أُخُرًا و من أُخُر: اس نے کپڑے کو پیچھے سے پھاڑا۔ الأَخَرَة: دیر۔ جاءَ أَخَرَةً و بأَخَرَةٍ: وہ آخر میں آیا۔ الآخِرَة و الأُخْرى: ابدی زندگی کا گھر۔ أُخْرَوِي: ابدی زندگی کا، ابدی زندگی کے متعلق۔ المُؤْخِر جمع مَآخِر: کنپٹی کے رخ میں آنکھ کا گوشہ۔ مُؤَخَّرُ الشيء: چیز کا پچھلا حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ مُؤَخَّرُ السفينة: جہاز یا کشتی کا پچھلا حصہ۔ المِئْخار جمع مَآخِير من النخل (ب): کھجور کا درخت جس کا پھل موسم سرما کے آخر تک رہے۔ المُتأَخِّر: تقالید اور موروثی عادت چھوڑ کر اپنے زمانہ کی ثقافت اور تہذیب کے ہمرکاب نہ ہونے والا، پسماندہ (اس کی ضد المعاصرُ لزمانہ یا العصری ہے)۔

۲۔ الأَخُور: اصطبل (فارسی لفظ)

○ أَخَّر ہ میں دیر کرنا، کو ملتوی کرنا، کو موقوف رکھنا ۔ ہ/ ہ کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو تھامے رہنا، سنبھالے رہنا۔ ۔ ہ کو کم کرنا، آہستہ کرنا۔ ۔ ہ عن: کو اس کے وقت کے بعد بھی لٹکائے رکھنا، کو سے زیادہ عرصہ تک (جاری) رکھنا۔ ۔ ہ/ ہ کو دیر کرانا ۔ ہ: کو کھٹائی میں ڈالنا، زینت طاق نسیان بنانا ۔ ہ: (گھڑی کی سوئیاں) پیچھے کرنا ۔ ہ/ ہ: کو عہدے سے معطل کرنا، سبکدوش کرنا، برخاست کرنا۔ الگ کر دینا، موقوف کرنا تَأَخَّرَ: دیر سے پہنچنا، تاخیر ہونا، ۔ عن: سے پیچھے رہنا، (قرضہ) ادا کرنے میں ناکام رہنا، قرضہ ادا کرنے میں دیر کرنا، میں دیر کرنا، ہچکچانا۔ ۔ عہدے (ملازمت) سے معطل ہونا۔ برخاست ہونا سبکدوش ہونا۔ لم يتأخر بعد ذلك من أن: اس کے بعد وہ سے، پہلے زیادہ دیر نہیں ہچکچایا، تھوڑی دیر میں، وہ ۔۔۔ آخِر جمع آخِرون و آخِرات و اَوَاخِر: آخری گزشتہ، سب سے زیادہ، انتہائی، حد درجہ، از حد، شدید، حد، خاتمہ، انجام، کاغذ کا پیندا، الآخِر والآخِرة: آخرت۔ الدار الآخِرة: ابدی زندگی کا گھر۔ اِلى آخِره: و غيره على هذا القياس۔ آخِرَ الأمرِ: آخیر کار، انجام کار، بالآخر، آخر میں، تاہم، پھر بھی، آخِرَ الدهرِ: ہمیشہ آخر الزمان: وہ وقت جب انصاف کا دن متوقع ہے، دنیا کا خاتمہ، عن آخِره: آخر تک، مکمل طور پر۔ دُمِّرَ عن آخِره: مکمل طور پر تباہ ہو جانا، نقشہ سے محو ہو جانا۔ من آخره: پیچھے سے۔ ماله آخر: لامحدود، غیر مختتم، لامتناہی، في آخر الآخِر: پھر بھی، تاہم، اواخر الشهر: مہینہ کے آخری دس دن اخيرًا و ليس آخرا: آخری بات مگر اہمیت میں یہ بھی کچھ کم نہیں۔ آخر میں مگر موخر نہیں۔ الآخرة: ابدی زندگی۔ آخرت آخَر مونث أُخْرَى جمع أُخَر: (اور آخَرون یا أُخْرَيات): ایک دوسرا، ایک اور، الآخَر: دوسرا (شخص یا چیز) اور (شخص یا چیز) مَرَّةً أُخْرَى: ایک مرتبہ اور هو الآخر، هي الأُخرى: وہ (مرد) بھی، وہ (عورت) بھی۔ انا الآخر: میں بھی، إن كانت الأُخْرى: ورنہ، اور طرح من آن إلى آخر: وقتاً فوقتاً من سنة إلى اخرى: سال بسال۔ بينَ فترةٍ و اخرى، وقتاً فوقتاً، کبھی کبھار، آونةً ...... اخرى: کبھی کبھی، کبھی کبھار۔ الأُخْرى: آخرت، ابدی زندگی اُخْرَوِي: آخرت کے متعلق، آخرت کا۔ اخير: آخری، اخیری، تازہ ترین، جدید ترین، سب سے پیچھے دو کا دوسرا۔ اخيرًا: آخر کار، انجام کار، بالآخر، آخر میں، پھر بھی، تاہم، حال ہی میں، کچھ عرصہ قبل، چند روز پہلے۔ تأخُّر: (کسی ملک کی) پسماندگی ترقی پذیری۔ مُؤَخَّر: پچھلا حصہ، دم، سرا، بحری جہاز یا کشتی کا دنبالہ، کسی رقم کا بقیہ جو بعد میں ادا کیا جانا مطلوب ہو) مؤخَّرًا: حال ہی میں، کچھ عرصہ قبل، چند روز پہلے، آخر کار، انجام کار، بالآخر۔ مُؤَخَّرة: (فوج کا) عقب، پیچھے کے مورچے، پچھلی صفیں (فوج کی)، بحری جہاز کا دنبالہ۔ مُتأخِّر دیر سے آنے والا،

بعداز وقت دیر لگایا ہوا، لٹکا کر رکھا ہوا۔ —— عن: سے بعد ہونے والا، پیش آنے والا۔ –: پیچھے، دوسروں کے بعد، بعد از وقت، پسماندہ، ترقی پذیر، پیچھے رہنے والا، قانون سے بھاگا ہوا۔ المُتَاخِرون: جدید مصنفین۔ قلم کار وغیرہ (اس کی ضد المتقدمون ہے) المتاخرات: بقایا، سابقہ ادائگی کے بعد باقی رقم جو واجب الادا ہو۔ البلدان المتاخرة: ترقی پذیر ممالک، پسماندہ ملک۔

اخط: الاُخطُبوط (ح): دیکھو اخبوط۔

اخل: اَخیلیا (ن): ایک پھولدار پودا، جس کے پھول خوشبودار ہوتے ہیں اور مشرق وسطی میں عام ہیں۔

اخن: اَخِیُون (ن): ناگ پھنی: ایک پودا، طب میں سینہ سے گاڑھا تھوک نکالنے اور پیشاب لانے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے

اخا ۱۔ اَخا ـُ اُخوَّةً و آخَی اِخاءً و مُؤاخاةً و اِخاوَةً ہ: کا بھائی یا دوست ہونا تَـآخَی ہ: کو بھائی بنانا، یا بھائی کہہ کر پکارنا۔ تَـآخیا: باہم ایک دوسرے کا بھائی بنا —— الاَخ و الاَخِ و الاَخو و الاَخُو تثنیة اَخَوان جمع اِخوة و اُخوَة و اِخوان و اُخوان و اُخون و آخاء: بھائی (الإخوة (جمع اُخ کی) — من النسب: نسبی بھائی۔ کہا جاتا ہے۔ ھولاء اخوة فلان: یہ فلان کے نسبی بھائی ہیں) ساتھی، دوست، کہا جاتا ہے الاخوان اُخ کی جمع) دوستی کے لحاظ سے بھائی۔ کہا جاتا ہے ھولاء اخوان صفا: وہ خلوص کے بھائی ہیں)۔ قبیلہ، دنیا، صنعت، معاملہ وغیرہ میں دوسرے کے ساتھ ہر شرکت کرنے والا۔ راہبوں کی رائے میں الاخوة: وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک بطور پادری صلیب کا نشان نہ بنایا ہو اور یہ ابتدائی اور طالب علم ہوتے ہیں یا جو بھی صلیب کا نشان نہ بنائیں۔ یہ لوگ عملی اخوۃ ہیں۔ اخوی واخِیّ: (نسبت کیلئے) یعنی بھائی کا، بھائی کے متعلق، برادرانہ اخوِیَّة: بھائیوں کی جماعت خواہ دینی ہو یا غیر دینی۔

۲۔ اخی للدابّة: جانور کو باندھنے کے لئے حلقہ دار رسی بنانا۔ الاَخِیّة والآخِیّة جمع اواخیّ و اخایا و اواخِ: جانور کو باندھنے کی حلقہ دار رسی جو زمین میں گڑی ہوئی کھونٹی سے بندھی ہوتی ہے۔ شدَّ اللّٰهُ بینکما اواخی الإخاء: اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان بھائی بندی کے علاقہ کو مضبوط کرے۔

۳۔ تاخی و توخی الشیءَ: کا قصد کرنا، کو تلاش کرنا، دیکھو (و خ ی)۔

○ آخاه: کے ساتھ بھائی چارا کرنا، رشتہ اخوت قائم کرنا، کے ساتھ بھائیوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا یا شریک ہونا۔ تآخی: بھائی یا دوست کی طرح کام کرنا، یا آپ ایک کو بھائی یا دوست کی طرح ظاہر کرنا۔ اَخ جمع اِخوَة واخوان: بھائی، ساتھی، پڑوسی، دوست جمع اِخوَان: خصوصاً کسی جماعت کے رکن بھائی (جیسے پیر بھائی جو ایک پیر کے معتقد ہوں) الاخوان: وہابی فرقہ کا مذہبی بھائی چارا، جو کردار میں جنگجو ہیں۔ یہ فرقہ ابن سعود نے ۱۹۱۰ء میں قائم کیا تھا۔ یا اخی: میرے پیارے دوست! اخو ثقة: قابل اعتبار، بھروسہ کے لائق اخ شقیق: سگا بھائی۔ اُخت جمع اخوات: بہن، ہم اصل یا متجانس (لفظ)، ہم زاد، ہم منصب۔ اختها: دو میں سے دوسری، اس کی ساتھی، اس کی ہم مرتبہ (مونث اسم کے بعد)۔ خوَی: چھوٹا بھائی۔ اَخوِی: برادرانہ دوستانہ (اَخوِیّة: بھائی چارا، بھائی بندی، ہم عقیدگی بطور (مذہبی جماعت) اِخاو اخوة: بھائی چارہ، مواخات، بھائی بننا، برادری، برادرانہ تعلقات، ایک ہی عقیدہ کے لوگ۔ اِخاوَة: بھائی چارہ، برادری بھائی بندی، برادرانہ تعلقات۔ مذہبی جماعت۔ ایک ہی عقیدہ کے لوگ۔ مؤاخات، میل ملاپ، میل جول تآخ: مواخات، میل ملاپ، میل جول۔

○ اَخُور: اصطبل، کھلیان، غلہ گودام۔

اد: ادَّ ـِ اَدًّا ہ الویل: پر مصیبت کا اچانک آنا۔ —— ہ الأمرُ: پر بھاری اور دشوار ہونا۔ —— الرجُلُ فی الأرض: زمین پر چلنا، سفر کرنا۔ تأدَّدَ الامرُ: بوجھل اور مشکل ہونا صفت: اَدِید۔ الاِدّ والاِدَّة جمع اِداد و اِدَد: مصیبت۔ دشوار کام، ہولناک واقعہ۔

○ امر اداد: وحشتناک اور برا کام۔

ادب: ۱۔ اَدُبَ ـُ اَدَبًا: اچھی تربیت والا، باشائستہ ہونا۔ اَدَّبَ ہ: کو مہذب بنانا، شائستہ بنانا (صفت مُؤدِّب) کو کسی جرم پر سزا دینا۔ تأدَّبَ: اچھی تربیت پانا، ادب و تہذیب سیکھنا۔ — بہ: کی اقتداء کرنا۔ — عن فلان: کے اخلاق اپنانا۔ اِستادب بمعنی تادّب۔ الأدَب جمع آداب: وہ اخلاقی ملکہ جو انسان کو ہر ناشائستہ بات سے باز رکھے، اچھی روش، اچھی دانش۔

۲۔ آدَبَ اِیدابًا السلطانُ البلادَ: بادشاہ کا ملک کو عدل و انصاف سے بھر دینا۔

۳۔ اَدُبَ ـُ اَدَبًا: صاحب ادب ہونا صفت: اَدِیب جمع اُدَباء۔ اَدَّبَ ہ: کو ادب و اخلاق سکھانا۔ تادَّب: ادب سیکھنا الأدَب جمع الآدَب: الآداب کا اطلاق عموماً ہر قسم کے علوم وفنون پر ہوتا ہے یا ان کے کسی دلچسپ حصہ پر۔ کسی چیز یا شخص کی شایان شان بات کو بھی اداب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے آداب الدرس، آداب القاضی وغیرہ۔ علم الادب: وہ علم جس کے ذریعے بول چال اور تحریری غلطیوں اور لغزشوں سے بچا جا سکے۔

۴۔ اَدَبَ ـِ اَدْبًا و آدَبَ اِیدابًا: دعوت کا کھانا تیار کرنا۔ — ہ: کو دعوت میں بلانا۔ کہا جاتا ہے: اَدَبَهم علی امر: اس نے سب لوگوں کو ایک معاملہ پر جمع کیا۔ الادبة و المَادبه و المادُبة جمع مآدِب: دعوت یا کسی تقریب کا کھانا، کہا جاتا ہے: اقام مادبةً علی شرف فلان: اس نے فلاں شخص کے اعزاز میں دعوت کی۔

○ اَدَبَ مادَبَةً: دعوت کا انتظام کرنا، عصرانہ یا عشائیہ دینا۔ آداب ہ: کو بطور مہمان مدعو کرنا تأدَّب ب: سے رہنمائی حاصل کرنا۔ تادَّب بادبه: کی اخلاقی مثال پر عمل کرنا۔ ادب جمع آداب: کلچر، شستگی، اچھی پرورش یا تربیت، اچھے ڈھنگ، سماجی نوازشات، آداب مجلس، ذوق سلیم، خوش اسلوبی، خوش اطواری، خوشنمائی، زیبائی، انسانی ہمدردی، ادبی مطالعے اور تحریریں، بیت الأدب: بیت الخلا قلیل الادب و عدیم الأدب: بدتہذیب، غیر مہذب، ناشائستہ، بدتربیت، اکھڑ، الادب العامی: عوامی ادب، رجال الادب: اُدبا، ادیب لوگ، اہل علم، علماء، کلّیّة الآداب: آرٹس کالج آداب: قواعد، طرز عمل کے قواعد۔ آدابُ السلوك: آداب مجلس کے قواعد۔ آداب محفل، پیشہ ورانہ آداب۔ الآداب: سلیقہ، شائستگی، اخلاق، سیرت۔ ادبی: اخلاقی، ادبی واجب ادبی: اخلاقی فرض۔ اَدَبیاً و مادیاً: اخلاقی اور مادی طور پر الفلسفة الادبية: علم اخلاق، اخلاقیات، اخلاقی علم۔ اَدَبِیات: لٹریچر۔ ادبی مطالعے اور تحریریں (مضامین) ادبخانة: بیت الخلاء جمع ادبخانات: ادیب: لکھاری، قلم کار، لکھنے والا مصنف، ادیب، مہذب، تعلیم یافتہ، اچھی تربیت والا، خوش اطوار، خوش ذوق اَدِیبة: مصنفہ، لکھنے والی مادبة: خاص ضیافت، بڑی دعوت، عصرانہ، عشائیہ، مجلس التادیب: انضباطی مجلس۔ تادیبی: تادیبی قضية تادیبیة: تادیبی کارروائی آدِب: میزبان۔ مؤدِّب جمع مؤدِّبون: مدرس، معلم، (قرآنی مدرسہ کا) مؤدَّب: خوش اطوار، شائستہ، مہذب، بااخلاق۔

○ اُدرَة: آنت کا خصیہ میں اتر جانا۔

اَدِرْنَة: شمالی مغربی ترکیا کا ایک شہر۔

الادریاتیك بَحرُ الأدْرِیاتِیك: بحر ایڈریاٹک۔

ادم ا۔ اَدَمَ ـــ اَدْمًا الخبزَ: روٹی کو سالن سے تر کرنا۔ صفت مفعولی: مادوم و ادِیم (سالن میں تر کی ہوئی روٹی) اِئْتَدَمَ: روٹی کو سالن کے ساتھ کھانا، الإدام جمع آدام و اُدُم: ہر موافق اور نرم چیز۔ سالن۔ الأُدْم: ہر وہ شے جس کا سالن بنایا جا سکے۔

۲۔ اَدَمَ ـــ اَدْمًا اَهلَهُ: اپنے اہل کے لئے نمونہ بننا اَدَمَ و آدم بين المتخاصمين: دو جھگڑنے والوں میں صلح کرانا اور موافقت پیدا کرنا۔ آدَم جمع اَوَادِم: حضرت آدم علیہ السلام کا نام، افرادِ جنس۔ (نسبت کیلئے): آدمیّ۔ الأُدْمَة: قرابت، وسیلہ۔

۳۔ اَدِمَ ـــ اَدَمًا و اَدُمَ ـُ اُدْمَةً: گندم گوں ہونا۔ الآدِم: مونث اَدْمَاء جمع اُدْم: گندم گوں۔ الأُدْمَة: گندم گونی۔

۴۔ الأَدَمَة و الأَدَم: چمڑے کا اندرونی یا بیرونی حصہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ إدام قومِهِ وأَدَمُ بنی ابیه و اَدَمَةُ قومِهِ: فلاں شخص اپنی قوم کا پیشرو اور سردار ہے جس سے اس کی قوم پہچانی جاتی ہے۔ الأدِيم جمع اَدَم و اُدُم و آدمة و آدام: رنگا ہوا چمڑا۔ ـــ الضحی: چاشت کا شروع۔ ـــ السماء او الأرض: آسمان اور زمین کی ظاہری سطح۔ ـــ النهار: دن کی روشنی۔ تمام دن کہا جاتا ہے: ظلَّ اديمَ النهارِ صائمًا: وہ پورے دن روزے سے رہا۔ الادّام: چمڑے کا بیوپاری۔

اَدَمَ ـــ اَدْمًا ه: روٹی کے ساتھ کوئی اضافی خوراک کھانا۔ روٹی کو کسی فالتو خوراک یا مسالہ سے مقوی کرنا۔ اِدام: روٹی کے ساتھ کھائے جانے والی کوئی چیز۔ چربی، روغن، چربی دار، یا روغنی عنصر یا مسالہ اَدَم و اَدَمَة: چمڑا۔ اَدِيم: چمڑا، سطح رنگا ہوا چمڑا، کمائی ہوئی کھال۔ اديمُ الارض: زمین کی سطح۔ اَدّام: چمڑا کمانے والا۔ کھالیں رنگنے والا، دباغت کرنے والا۔

آدَم: حضرت آدم علیہ السلام۔ ابن آدم: انسان۔ آدمی: آدمی، نرم دل، نیک دل، شریف النفس، غریب، کم مرتبہ، ناکافی، جمع آدَمِیُّون و اوَادِم: انسان۔ آدَمِيَّة: انسانی ہمدردی، انسانی محبت، انسان دوستی، حقوق انسانی کی حمایت، مذہب انسانیت (جس کا پیرو خدا کا قائل نہیں ہوتا اور صرف انسانی فلاح و بہبود کو مقصد حیات سمجھتا ہے۔ علم و ادب کا مطالعہ۔

ادا ا۔ اَدَا ـُ اُدُوًّا الثمرُ: پھل کا پکنا۔ ـ اللبنُ: دودھ کا جمنا یا گاڑھا ہونا۔

۲۔ اَدَا ـُ اُدُوًّا اللبنَ: دودھ بلونا۔

۳۔ اَدَا ـُ اُدُوًّا للرجُلِ: کو دھوکا اور فریب دینا۔ تَأَدَّى و تَآدَى: آلہ بنانا، تیار کرنا، زمانے کے حوادث کے لئے تیار ہونا، سامان مہیا کرنا۔ الأَداة جمع اَدَوات: آلہ۔ کہا جاتا ہے: أداةُ التعبير: زبان۔ ادوات النجارة: بڑھئی کے پیشے کے ہتھیار و اوزار۔ علم صرف میں بعض حروف کا نام جیسے: الادوات الجازمة یعنی جزم دینے والے حروف۔ الإداوَة جمع اَدَاوَى: چمڑے کا ایک چھوٹا برتن۔

اَدَاة جمع ادوات: اوزار، ہتھیار، آلہ عام استعمال کا برتن، سامان، کسی مقصد کے لئے وقتی طور پر ایجاد کردہ چیز یا آلہ۔ وسیلہ، تجرباتی آلات، حرف (گرامر) اداةُ الحُكم: حکومت کی مشینری۔ اداةُ التعريف: حرف تعریف (گرامر) اداة تنفيذية: عاملہ یا نافذہ ایجنسی (agency) جمع ادوات: جس چیز سے کچھ بنایا جائے، سامان، مال، ساز و سامان، ساز و یراق، اَدَواتٌ حَرْبِيَة: جنگی سامان۔ اَدَواتٌ إحْتِياطِيَة: پکا ساز و سامان جس پر بوقت ضرورت بھروسا کیا جا سکے۔ ادواتٌ مَنْزِلِيَة: خانگی استعمال کے برتن اور چیزیں الادُون: (عبرانی): خداتعالٰی: مسٹر، جناب۔

ادی: ا۔ اَدَى ـــ أَدْيًا الشيءَ: کو پہنچانا اَدَّى تَأدِيَةً الشيءَ: کو پہنچانا۔ اَدَّى اليه الخبر: اس نے اس کو خبر پہنچائی۔ تَأَدَّى اليه الخبرُ: کو خبر پہنچنا۔ الأَداء: چیز کو اس شخص تک پہنچانا جس کو وہ بھیجی جائے۔

۲۔ اَدَى ـِ اَدْيًا ه: کو ادا کرنا۔ اَدَّى تَأدِيَةً ه: کو ادا کرنا (کہا جاتا ہے: اَدَّى ما عليه مِن دَيْنٍ: اس نے اپنے ذمہ واجب الادا قرض ادا کیا)۔ (اَدَّى واجب الاحترام: اس نے احترام کا فرض ادا کیا)۔ تَأَدَّى له من حقه: کو اس کا حق ادا کرنا۔ الاداء: ادائیگی۔

۳۔ آدَى إيدَاءً ه عليه: کی مدد کرنا، تیار ہونا، قوی ہونا۔ اِسْتَأْدَى آخرَ عليه: دوسرے سے کے خلاف مدد چاہنا۔ ـ فلانا المالَ: سے مال لینا۔ ـ عليه: کے خلاف مدد کی اپیل کرنا۔

اَدَّى ه/ ـ ب إلى: کسی شخص یا چیز کو تک لیجانا، منتقل کرنا، لے چلنا، پہنچانا، چلانا، ـ الى: کا باعث ہونا، کو وجود میں لانا، کو کرنا، عمل میں لانا، ـ الى ایک نتیجہ کی طرف رہنمائی کرنا، کا سبب بننا، میں ممد ہونا، کا باعث ہونا، کا مترادف ہونا، عملی طور پر کے مترادف ہونا، پر راہی ہونا، کی طرف میلان یا رخ ہونا، کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ ـــ ه: پر عمل کرنا، کو عمل میں لانا، کو بجالانا، ادا کرنا، عہدہ برا ہونا، (مذہبی رسوم وغیرہ) ادا کرنا۔ ـ واجبَه: اپنا فرض ادا کرنا۔ ـ وظيفة: وظیفہ سرانجام دینا۔ ـــ رسالة: مشن پورا کرنا، مشن کی تکمیل کرنا۔ ـــ مامورِيةً: کام انجام دینا، بجالانا، پورا کرنا۔ يمينًا: حلف اٹھانا۔ ـــ امتحانًا: امتحان دینا۔ خدمةً ل/ الى: کی خدمت کرنا۔ اَدَّى السلامَ: سلام کرنا، سلامی دینا۔ تَأَدَّى إلى: کی طرف رہنمائی کرنا، کا باعث ہونا، میں ممد ہونا، کے نتائج کا سبب بننا۔ پر عمل کیا جانا، کو عمل میں لایا جانا، سر انجام دیا جانا، کیا جانا، کا کردار ادا کیا جانا۔ اِلى: میں پہنچانا، میں لیجایا جانا۔ اِسْتَأْدَى ه ه: سے کا مطالبہ کرنا۔ اداء جمع اَداءات: (بطور اَدَّى: کے مصدری اسم کے) کوئی خدمت کرنا، جستجو، تعاقب، کے حصول کی کوشش، عمل، کام، کرنا، تعمیل، کاروائی، بجا آوری، عمل درآمد، (فرض کی) سر انجام دہی، کر دکھانا، بروئے کار لانا، حصول، پورا کرنا، ادا کردگی، پورا کرنا، ادائیگی حسنُ الأداءِ: فن یا نغمہ نگاری، نغمہ گری کی اچھی ادائیگی تادية: کوئی خدمت کرنا، تعاقب، تلاش، جستجو، انجام دہی، بجا آوری، تعمیل، کارروائی، انصرام، (فرض کی) بجا آوری، بروئے کار لانا، کر دکھانا، حاصل کرنا، تعمیل کرنا، بجالانا، پورا کرنا، فرض بجالانا، پورا کرنا، ادائیگی، مُؤَدَّى: کام، تفویض، فرض منصبی، منصب، عہدہ، خدمت، معنی، مراد، مطلب، مفہوم، منشا، موجود خیال۔

اِذ: ا۔ اِذ: زمانہ ماضی کا ظرف جس کے بعد صرف جملہ واقع ہوتا ہے۔ کبھی یہ جملہ محذوف بھی ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ تنوین آجاتی ہے۔ جیسے: حتى جاءكم الموتُ فحينئذٍ تعلمون: یہ در اصل یوں ہے: فحين اذا يجيئ تعلمون۔ اِذ: مفاجات کے لئے بھی آتا ہے۔ جیسے بينما انا جالس اذ جاءَ زيدٌ: (میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک زید آگیا)۔ کبھی لام تعلیل کے معنے دیتا ہے جیسے: ضربت ابني إذ اساء (يعني لانه اساءَ) میں نے اپنے بیٹے کو مارا کیونکہ اس نے بدی کی تھی)۔

۲۔ اذا: زمانہ مستقبل کے لئے ظرف ہے۔ اور شرط کے معنے دیتا ہے اِذا اجتهدت نجحت: جب تم کوشش کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حرف مفاجات کے طور پر بھی آتا ہے۔ جیسے خرجتُ فإذا اسدٌ بالباب: میں نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ پر شیر ہے یا میں نکلا تو اچانک دروازہ پر شیر تھا۔

۳۔ إذمـا: حرف شرط بمعنی إن اور دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ جیسے: إذ ما تقم أقم: اگر تم کھڑے ہوگے تو میں بھی کھڑا ہوں گا۔

۴۔ إذن و إذًا: حرف جواب و جزاء یا حرف مکافات ہے۔ مثلاً: ازورك میں تمہیں ملنے آؤں گا تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے إذن أكرمك: تو میں آپ کا اکرام کرونگا۔ اس وقت میں مضارع پر نصب آئیگا۔ بشرطیکہ شروع کلام میں ہو۔ اذا هذا هو الصواب (اس صورت میں بھی یہی صحیح ہے)۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب سبب کی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہو۔ اس وقت یہ غیر عامل ہوتا ہے۔

○ إذ: (اور) تب۔ إذذاك (إذاك): تب، اس وقت، اس وقت، ایسا کرنے میں۔

۲۔ إذ: جب، چونکہ، کیونکہ۔ إذ أنّ: کیونکہ، چونکہ، اس حقیقت کے پیش نظر کہ۔ اذا: اور تب، اور اچانک، جب، اگر، جب بھی، آیا، اگر۔ إذا ما: جب، جب بھی۔ الاإذا: اگر نہ، جب تک نہ۔ إذًا و إذن: تب، لہٰذا، اس صورت میں، اس سبب سے، اس وجہ سے، اس لئے۔

آذار: مارچ (کا مہینہ)

۲۔ الآذريون (ن): سورج مکھی۔

اذن: ۱۔ أذِنَ ۔ إذنًا و أذنًا و أذانًا و أذانةً بالشيء: کو جاننا۔ ۔ أذنًا اليه ولهُ: کی طرف کان لگانا، کو سننا، کہا جاتا ہے۔ حدثته فاذن لي احسن الأذان: میں نے جب اس سے گفتگو کی تو اس نے میری بات کو خوب کان لگا کر سنا۔ آذنَ إيذانا فلانا الأمرَ وبالأمر: کوئی اطلاع دینا، کو سے آگاہ کرنا۔ أذّنَ تأذينا بالصلاة: نماز کے لئے اذان دینا، بلانا۔ تأذّنَ: قسم کھانا۔ ۔ الأمرَ: کو جاننا۔ ۔ بالشرّ: شر سے ڈرانا۔ الإذن: علم کہا جاتا ہے: فعله باذني: اس نے اس کو میری دانستگی میں کیا۔ الأذان: اطلاع، اذان، بانگ۔ الأذين: اذان دینے والا، بانگی، موذن، کفیل، لیڈر۔ المئذنة جمع مآذن: اذان دینے کی جگہ، منارہ۔

۲۔ أذِنَ ۔ إذنًا و أذينًا له في الشيء: کو کوئی اجازت دینا، کے لئے کوئی چیز مباح کرنا، صفت مفعولی: مأذون له۔ إستأذنَهُ: سے اجازت چاہنا۔ ۔ عليه: سے اندر آنے کی اجازت طلب کرنا۔ الآذين: حاجب۔ الإذن: اجازت۔ المأذون: اعلیٰ علوم یا قانون کی ڈگری کا حامل۔ المأذونية: اعلیٰ علوم یا قانون کی ڈگری، اجازت۔

۳۔ أذَنَ ۔ أذنًا ہ: کے کان پر مارنا۔ أذِنَ: کان کے درد میں مبتلا ہونا۔ آذن إيذانا الرجلَ: کے کان پر مارنا۔ اذن الولدَ: بچے کے کان مروڑنا۔ الأذن والأذن (مونث) جمع آذان: تصغير اذينه: کان (سننے کا عضو) کہا جاتا ہے: فلانٌ أذنٌ من الآذان: فلاں شخص ہر شخص کی بات سن لیتا ہے۔ یہ لفظ سب کے ساتھ واحد آتا ہے۔ جیسے: هي أذنٌ وهما أذنٌ وغیرہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے: جاء ناشرًا اذنيه: وہ غافل بن کر آیا۔ ۔ الابريق: لوٹے کا دستہ۔ آذان الجدي، آذان الأرنب و آذان الفيل: پھولدار پودوں کے نام۔ آذان الفار: ایک پھولدار پودا، آذان الدب: ایک پودے کا نام۔ الآذن والأذاني: بڑے بڑے کانوں والا۔ الأذنان الايسر والأيمن: دل کے بالائی حصہ میں دو گڑھے۔

۴۔ آذن إيذانا العشبُ: گھاس کا سوکھنے لگنا۔

○ اذِنَ ۔ الي: کی بات پر کان لگانا، کو بغور سننا۔ ۔ له في: کو کسی چیز کی اجازت دینا۔ ۔ ب: کے بارے میں سننا، جاننا، سے مطلع ہونا۔ أذّنَ ب: کی طرف بلانا، کی دعوت دینا خصوصاً۔ بالصلاة: نماز کی طرف بلانا، آذان دینا۔ ۔ (مرغ کا) ککڑوں کرنا۔ آذنَ ب: کا اعلان کرنا۔ ۔ ہ ب: کسی کے علم میں کوئی چیز لانا۔ ۔ ہ: کو اطلاع دینا۔ ۔: آذان دینا۔ ۔ ہ ب: سے کچھ کرنے کا تقاضا کرنا، پر کیلئے زور دینا، کوئی نصیحت کرنا، تاکید کرنا۔ ۔ ب/ ہ: کی آمد کی خبر دینا۔ ۔ ب: کا پتہ دینا، کی چمک دکھانا۔ ۔ أن: کو کرنے کو ہی ہونا۔ آذنَ بالسقوط (بالزوال): کے زوال، خاتمہ کی قریبی علامتیں ظاہر کرنا۔ آذن الليل بلنتصف: یہ آدھی رات کے قریب کا وقت تھا۔ تأذّنَ ب: کی آمد کی خبر دینا، کا اعلان کرنا استأذن في: کچھ کرنے کی اجازت چاہنا (شاذ و نادر صلہ ب بھی آتا ہے)۔ ۔ على: کے (گھر میں اندر آنے کی) اجازت طلب کرنا۔ ۔ من: کو الوداع کہنا، سے رخصت ہونا۔ إذن: اجازت، اختیار۔ باذن الله: اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، جمع اذون و اذونات: پوسٹل آرڈر۔ ۔ اذن البريد جمع اذونات البريد: پوسٹل منی آرڈر، اذن البوستة: پوسٹل منی آرڈر۔ اذن و اذن (مونث) جمع آذان: کان (پیالے وغیرہ کا) دستہ۔ التهاب الاذن الوسطي: درمیانی کان کے وسط کا متعدی مرض۔ آذان: آذان۔ اذينـه: چھوٹا کان۔ مأذون: مجاز، بااختیار، محدود قانونی حقوق والا غلام۔ مأذون شرعي: نکاح خواں۔ مأذونية: رخصت، لمبی چھٹی، طویل رخصت، لائسنس، حق راہ داری۔

مؤذِن: موذن، اذان دینے والا۔

اذی: أذِيَ ۔ أذى و أذاة: تکلیف و اذیت پانا۔ آذى إيذاءً الرجلَ: کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا۔ تأذّى: تکلیف اٹھانا۔ الأذى والأذيّة والأذاة: ضرر خفیف، الأذِيّ: بہت تکلیف برداشت کرنے والا، بہت تکلیف دینے والا۔ الآذيّ: موج دریا۔

○ اذِيَ ۔: نقصان اٹھانا، تکلیف پانا۔ أذى ہ: کو تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، پر ظلم کرنا، کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، کو برافروختہ کرنا۔ لا يُؤذِي: بے ضرر، جو قابل اعتراض نہ ہو۔ أذى وأذاة و أذيّة: نقصان، تکلیف، دکھ، زخم، ضرر، پریشانی، برہمی، جھنجھلاہٹ، ظلم، شکایت، وجہ شکایت، توہین، جرم، گناہ، جذبات کو ٹھیس، ناراضگی، غصہ، رنجش۔ إذاية: نقصان، تکلیف، ضرر رسانی، نقصان دہی۔ ايـذاء: نقصان، ضرر، عصبیت، تعصب، بدظنی، بدگمانی۔ مُؤذٍ: نقصان دہ، تکلیف دہ، زیاں کار، مضر، نقصان رساں، ہارج، ہتک آمیز، متعصبانہ، ناراض کن، تکلیف دہ، گراں، ناگوار، توہین آمیز، دل شکن، ناپسندیدہ، نفرت انگیز۔

○ اراتیقی و اراتیکی جمع اراتقة: ملحد، بدعتی۔

○ آرامي: آرامی۔

ارب: ۱۔ أرِبَ ۔ أرَبًا: ماہر ہونا صفت: أرِب و أريب: مونث أريبة۔ ۔ بالشيء: کا ماہر ہونا، میں دانا و بصیر ہونا۔ أرُبَ ۔ أرابةً و إربًا: عقلمند و دانا ہونا صفت أريب و أرِب مونث أريبة۔

۲۔ أرِبَ ۔ إليه: کا محتاج ہونا۔ ۔ بالشيء: کسی شئی کا بہت دلدادہ اور مشتاق ہونا۔ الأرَب جمع آراب: انتہا، حاجت، ضرورت۔ الإرْب جمع آراب: حاجت۔ المأربة جمعها مآرِب: حاجت (مأربة کی را کی تثلیث کے ساتھ)

۳۔ أرّبَ ۔ أرَبًا العقدَ (ب): گرہ مضبوط لگانا۔ أرّبَ الشيءَ: کو مضبوط کرنا اور محکم بنانا۔ تأرّبت العقدة: گرہ مضبوط ہونا۔ ۔ الأمرُ: کام کا دشوار ہونا۔ الأُربة جمع أرَب: مضبوط گرہ، گردن کی ٹائی، نیک ٹائی۔

۴۔ آرَبَهُ مؤاربةً: کو فریب دینا، دھوکا دینا۔ تأرّبَ: تکلیف و بناوٹ سے زیرک بننا۔ إستأرب: کینہ چھپا کر مدارات کرنا، مغالطہ دینا۔ قرض لینا۔ الإرب والإربة: چالاکی، حیلہ۔

۵۔ أرِبَ ۔ الرجلُ: کے اعضاء کا گر جانا۔ أرَبَ ۔ أربًا الرجلَ: کے کسی عضو پر مارنا۔ أرّب الشاةَ: بکری کا جوڑ جوڑ الگ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الإرب جمع آراب: عضو، کہا جاتا ہے: قطعتُ الذبيحة إربا

اِربًا: میں نے ذبح شدہ جانور کا ایک ایک عضو الگ الگ کر دیا۔ الأُربِیَّة: ران کی جڑ۔

۲۔ اِربِیان و رُوبیان: جھینگا مچھلی۔

○ اَرِبَ ـ اَرَبًا: میں ماہر ہونا، قابل ہونا، لائق ہونا۔ اَرَّبَ: (گرہ) کو مضبوط کرنا۔ آرَبَ: کو ذہانت میں مغلوب کرنے کی کوشش کرنا۔ کو حکمت عملی سے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ اَرَب جمع آراب: کی خواہش، آرزو، کی ضرورت، ـــ فی: غرض، مقصد، مطمح نظر، علت غائی۔ اِرب جمع آراب: عضو، مَزَّقَهُ اِربًا اِربًا: کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پرزے پرزے کرنا۔ اِربَة: مہارت، ہوشیاری، سوجھ بوجھ، چارہ سازی، پھرتی، تیز فہمی۔ اُربة جمع اُرَب: گرہ، گانٹھ، لمان۔ اَریب: ماہر، سوجھ بوجھ رکھنے والا، خوش تدبیر، ہوشیار، چتر، سیانا، ذی شعور، عاقل، فہیم، دانشمند، تیز فہم۔ مَطلَب جمع مَآرِب: آرزو، خواہش، مقصد، غرض، مطمح نظر، علت غائی۔

اِربیل: قدیم نام اربیلہ، شمالی عراق کے ایک شہر کا نام۔

اَرتُوازی: فواری (کنوان)۔

ارث: اَرَّثَ: (آگ) جلانا۔ ـ بینهم: لوگوں میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانا۔ تَأَرَّثَتِ النار: آگ کا بھڑکنا۔ الأَرثة والإراث: ایندھن۔

۲۔ ارث: دیکھو ورث۔

○ اَرَّثَ بین: کے درمیان، مابین نا اتفاقی کا بیج بونا۔

اَرثوذُکسی: راسخ الاعتقاد، کٹر عام عقائد کا ماننے والا۔ الأرثوذکسیة: ارتھوڈکس چرچ۔ الروم الأُرثوذُکس: یونانی آرتھوڈکس چرچ۔

ارج: ۱۔ اَرِجَ ـ اَرَجًا و اَریجًا و تَأَرَّجَ: خوشبو دینا، مہکنا صفت: اَرِج۔

۲۔ اَرَجَ ـ اَرجًا الحقَّ بالباطل: حق و باطل کو ملانا۔ أَرَّجَ القوم و بینهم: لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا۔ صفت: اَرّاج ـ النارَ: آگ کو جلانا، روشن کرنا۔

۳۔ اَرِجَ ـ اَرَجًا الناسُ: لوگوں کا بلند آواز سے رونا۔

○ اَرَج: خوشبو، اَرِج: خوشبودار۔ اَریج: خوشبو۔

ارجح: تَأَرجَحَ: ہلنا، جھومنا۔ مُتَأَرجِح: بدلتے رہنے والا، اتار چڑھاؤ والا۔

ارجن: ۱۔ اَرجُوان (ن): ایک پھولدار درخت، سرخ رنگ، سرخ رنگ کپڑے۔ الرُّقعة الأُرجُوانیة: نثری قطعہ میں خوبصورت فصیح ادبی اظہار (انگریزی زبان میں)

۲۔ ارجون (ك): ایک نادر گیس (Argon)

○ الارجنتین: ارجنتینا: Argentina (ایک ملک کا نام)۔

ارخ: ۱۔ أَرَّخَ تأریخًا و آرَخَ مُؤَارَخَةً الكتابَ او الحادث: کا زمانہ متعین کرنا۔ التأریخ والتاریخ جمع تَوَاریخ: وقت کا بیان۔ تاریخ الشیء: کسی چیز کے ہونے کا وقت۔ علم التاریخ: واقعات و حادثات اور ان کے اسباب کے بیان کا علم جو ان کی تاریخ پر مشتمل ہو۔ المُؤَرِّخ: تاریخ دان، تاریخ نویس۔

۲۔ الأرخبیل: آس پاس واقع جزائر کا مجموعہ۔

۳۔ الأرخیولُوجیا ارکیولوجیا: علم آثار و فنون قدیمہ یا عتیقہ، اَثَریات (Archaeology)

○ أَرَّخَه: (خط وغیرہ پر) تاریخ ڈالنا، کی تاریخ لکھنا، تاریخ: خط وغیرہ پر تاریخ ڈالنا جمع تَوَاریخ: تاریخ، وقت، تاریخ، سرگزشت واقعات کا روزنامچہ، مرتب تاریخی واقعات، تاریخی مواد۔ تاریخُ الحیاة: سوانح عمری، تذکرہ، سرگذشت، (درخواست کے ساتھ) تعلیمی کوائف (Curriculum vitae)

تاریخ عامٌ: تاریخ عالم۔ علماء التاریخ: تاریخ دان۔

۲۔ تاریخی: تاریخی۔ مُؤَرِّخ جمع مُؤَرِّخون: تاریخ دان، تاریخ نویس، مورخ، وقائع نگار، روزنامچہ لکھنے والا، تاریخی واقعات ترتیب دینے والا۔

۳۔ مُؤَرَّخ: مورخہ Dated۔

اَرخَبیل: مجمع الجزائر (Archipelago)۔

اَرخَن جمع اَراخِنة: Archon (جمع) معززین: (Notables)

اردب: الإردَبّ جمع أرادِب: مصر میں ایک بڑا پیمانہ جو ۲۴ صاع کے برابر ہے۔

○ اِردَبّة: گندے پانی کا چوبچہ۔

○ الاُردُن: (دریائے) اردن، (ملک) اردن۔ اُردُنی: اردنی، اردن کا (باشندہ)۔ المَملَکةُ الأُردُنیة الهاشمیة: اردن کا سرکاری نام۔

○ اَردُواز: سلیٹ۔

ارز: ۱۔ اَرَزَ ـ اَرزًا و اُرُوزًا: سکڑنا، سمٹنا ـــ الحیّةُ: سانپ کا اپنے بل میں پناہ لینا کہا جاتا ہے۔ فلانٌ یارز الی وطنه: فلاں شخص گھوم گھام کے اپنے وطن لوٹ آتا ہے۔ آرِز: جڑ پکڑنے والا، مضبوط، شجرة آرِزة: وہ درخت جو جڑ پکڑے۔ اَریزُ القوم: قوم کا سردار۔

۲۔ اَرَزَ ـــ ... : بات کا عقدہ ہونا۔ صفت: اَریز و آرِز و اَروز: کہا جاتا ہے بتنا لیلةً آرِزةً یعنی یأرز من فیها لشدة بردها: ہم نے ایسی ٹھنڈی رات گزاری کہ سخت ٹھنڈ کی وجہ سے ہر شخص سکڑ رہا تھا۔ أَرَزَت اصابعهم من البرد: اس کی انگلیاں سردی کے سبب سکڑ اور ٹھٹھر گئیں۔

۳۔ الأُرز الآرُز والأَرُزّ والرُّزّ (ن): چاول۔ الأَرز (ن): صنوبر کا درخت الأُرزِیّة (ن): صنوبر کا درخت۔

○ اَرز: (واحد ارزہ): صنوبر۔

اَرُزّ: چاول۔

○ ارس: الأَرِستُقراطی: اونچے طبقے کا فرد الأَرِستُقراطیّة: اونچا طبقہ، طبقہ امراء، اشراف، اشرافیہ۔

○ اَرَسَ ـــ اَرسًا: کاشتکار ہونا۔ اِرّیس و اَریس: کاشتکار، کسان۔

○ اَرِسطُو: ارسطو (Aristotle)

ارش: ۱۔ اَرَشَ ـ اَرشًا: کو بھڑکانا، اکسانا، جوش دلانا۔ اَرَّشَ بینهم: میں فساد ڈالنا، ایک دوسرے کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا۔ ـــ الحربَ او النارَ: جنگ کی کی آگ بھڑکانا۔ یا آگ بھڑکانا۔ الأَرش جمع أُرُوش: رشوت۔

۲۔ اَرَشَ ـ اَرشًا: کو رشوت دینا الأَرش جمع أُروش: خون بہا۔ دیت۔

۳۔ اَرشِمَندریت: عیسائی کلیسہ کے معروف رتبہ کا حامل۔

○ اَرش: ہرجانہ، تاوان، جرمانہ، خون بہا، دیت۔ ارشی الـمقوبس: لاٹ پادری۔ ارشیدوق: رئیس اعظم، آرچ ڈیوک، ارشیدوقة: رئیسہ (ارشیدوق کا مونث)۔

ارض: ۱۔ أَرَضَ ـ اَرَضًا و أَرُضَ ـ اَراضةً المکانُ: جگہ کا سرسبز اور خوش منظر ہونا صفت اریض۔ أَرَّضَ الکلامَ وغیرَهُ: کلام وغیرہ کو آراستہ کرنا اور تیار کرنا۔ تَأَرَّضَ بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا، جم کر رہنا۔ ـــ لکذا: کے درپے ہونا۔ اِستَأرَضَ السحابُ: بادل کا زمین سے قریب ہو کر پھیل جانا اور جم جانا۔ الأَرض جمع أَرَضون وأُرُوض و اراضی و آراض: زمین (سیارہ جس پر ہم رہتے ہیں)۔ کہا جاتا ہے: اَتانا ابنُ ارضٍ: ہمارے پاس وہ اجنبی آیا جس کے نسب کا کوئی پتہ نہیں۔ ارضُ النعل: جوتے کی تلی۔ الأرضی شوکیّ (ن): زمین پر پھیلنے والا ایک کانٹے دار پودا۔ جسے خرشوف بھی کہا جاتا ہے۔

۲۔ اَرِضَت ـ اَرَضًا الخشبةُ: لکڑی کا دیمک خوردہ

ہونا۔ الأَرَضَة جمع أَرَض (ح): دیمک، لکڑی کھانے والا کیڑا۔

○ أَرْض (مونث) جمع أَرَاضٍ و أَرَضُون: زمین۔ ملک، علاقہ، خطہ، قطعہ زمین، مٹی۔ الأَرضُ السُفلَى: نیچی دنیا الأرضُ المُقَدَّسَة: مقدس سرزمین، فلسطین۔ أَرضِي: زمین کا، کرۂ زمین کا، کرۂ ارض کا۔ مٹی کا، ملک کا، میدان میں یا میدان کے قریب واقع، زمینی، دنیاوی، دنیوی، زیرِ زمین، زمین دوز۔ أَرضِي شَوكِي: خرشف ہاتھی چوک (ایک قسم کا پودا)۔ أَرَض (اسم جنس واحد واحد أَرَضَة دیمک، أَرضِيَة جمع أَرضِيات: فرش، منزل، (پھولدار کپڑے کی) زمین، نچلی منزل۔ پہلی منزل (Ground Floor, Ist Floor)۔ گودام کا کرایہ، أَرضُرُوم ارض روم (شمالی مشرقی ترکی کا شہر)۔

ارط ا۔ الأَرطَى (ن) واحد أَرطَاة جمع أَرَاطَى و أَرَاطٍ و آرَاط: ایک درخت جس کا پھل عناب کے مشابہ ہوتا ہے۔

۲۔ أَرطُماسِيا (ن) ایک پھولدار پودا۔

۳۔ أُرطُنْيا (ن) ایک جاپانی الاصل پھولدار پودا۔

○ أُرطَة (نیز أُورطَه) جمع أُرَط (أُوَرط): فوج، بٹالین (Battalion)

○ أَرطَقَة جمع أَرطَقَات: مسیحی عقائد کے خلاف، بدعت، کفر، خلافِ شرع (رائے)

ارغ ا۔ الأَرغُل (مو) ایک قسم کی بانسری۔

۲۔ الأُرغُن والأَرغُنُون (مو) آرگن، ایک قسم کا باجہ۔

ارق ا۔ أَرِقَ ــ أَرَقًا و إِئتَرَقَ: رات میں نیند نہ آنا صفت أَرِق و آرِق و أَرُوق و أُرُق۔ أَرَّقَ تأرِيقًا و آرَقَ إِيرَاقًا ہ: کو بیدار رکھنا۔

۲۔ الأَرَق (ح) ایک قسم کا کیڑا جس کا جسم لیس دار ہوتا ہے درختوں کے تنوں پر اکٹھے ہو کر ان کا ست چوستے ہیں۔ اليَرَقَان و الأَرَقَان و الإِرقَان و الأُرقَان و الأُراق: ایک بیماری جو انسانوں اور کھیتی کو لگ جاتی ہے، اس سے رنگ پیلا یا سیاہ ہو جاتا ہے۔ عام لوگ اسے داءُ الصُفَيرة کے نام سے جانتے ہیں۔

۳۔ الأَرِيقِي (ن) گلابی رنگ کے پھولوں والا ایک پودا۔

○ أَرِقَ ــ أَرَقًا: نیند نہ آنا۔ أَرَّقَ ہ: کو بے خواب کرنا، کو سونے نہ دینا۔ أَرَق: بے خوابی۔

ارک ا۔ أَرَكَ ــُ أُرُوكًا الجملُ: اونٹ کا پیلو کے درخت کے پتے کھانا۔ أَرِكَ ــ أَرَكًا الجملُ: درخت پیلو کے پتے کھانے سے اونٹ کے پیٹ میں درد ہونا۔ الأَرَاك (ن) واحد أَرَاكَة جمع أَرَك و أَرَائك: پیلو کا درخت۔

۲۔ أَرَكَ ــ أَرَكًا و أَرِكَ ــ أُرُوكًا الجرحُ: زخم کا اچھا ہو جانا۔

۳۔ أَرُوكَارِيا (ن): جنوبی امریکا کا صنوبر کی قسم کا اونچا درخت، اس کے پتے خاردار ہوتے ہیں اور ٹھنٹھ پر ہی اگ جاتا ہے۔

۴۔ الأَرِيكَة جمع أَرِيك و أَرَائِك: آراستہ و مزین تخت۔

○ أَرِيكَة جمع أَرَائِك: کوچ، صوفہ، تخت

○ أَرْكِيلَة جمع أَرَاكِيل: حقہ۔

إِرلَندِي: ملک آئرلینڈ کا (باشندہ) (Irish)

ارم: ا۔ أَرَمَ ــ أَرمًا الأرضَ: زمین میں نہ جڑ چھوڑنا۔ نہ شاخ صفت: أَرماء و مارومة۔ ــ الشيءَ: کو جڑ سے ختم کر دینا۔ ــ ماعلى المائدة: دسترخوان پر موجود سب کچھ چٹ کر جانا۔ الأُرَّم: ڈاڑھیں (کہا جاتا ہے: يحرق عليه الأُرَّم وہ مارے غصے کے اس پر دانت پیتا ہے) انگلیوں کے کنارے۔ الأَرُومَة والأُرُومة والأُرُوم جمع أَرُوم: ہر چیز کی اصل، حسب، درخت کی جڑ۔ هو شريف الأرومة: وہ شریف الحسب ہے۔

۲۔ الأَرَم: پتھر، الإِرَم والأَرِم جمع آرَام و أُرُوم: میدان میں میلوں کے شمار کے لئے پتھر، کہا جاتا ہے: مابها إِرَم او أَرِم: اس میں کوئی نہیں۔ الأُرمُع أُرَم: نشان راہ۔

○ أَرَمَ ــِ أَرمًا: دانت سے کاٹنا أُرَّم: ڈاڑھیں۔ حَرَّقَ الأُرَّمَ: (غصہ میں) دانت پیسنا۔ أَرُومَة و أُرُومَة: جڑ، اصل، درخت کا ٹھنٹھ۔ مِئرَم (دانت کی) جڑ۔

○ آرَام: آرَام (رئم کی جمع) سفید بارہ سنگھے۔

○ الأَرمَن: ارمینیا کے لوگ۔ أَرمَنِي آرمنی (صفت و اسم)۔ أَرمِينِيا آرمینیا

○ الأَرنَاؤُط: البانی (جمع) أَرنَاؤُطِي: البانیا کا باشندہ۔

ارن: أَرِنَ ــَ أَرَنًا و أَرِينًا و إِرَانًا البعيرُ: اونٹ کا نشاط میں آنا صفت: أَرِن و أَرُون۔

ارنب: الأَرنَب (ح) خرگوش جمع أَرَانِب۔

○ أَرنَب مونث جمع أَرَانِب: خرگوش، أرنب هندى: امریکی چوہا۔ ارنبہ: مادہ خرگوش، ہرنی أَرنَبَة الأَنف: ناک کا نوکدار سرا۔ (جانور کی) ناک یا تھوتھنی۔ أُرَينِب جمع أرانيب: نمونہ، شکل، خالی جگہ۔

ارو: الأَروِيَّة والأُروِيَّة جمع أَرَاوِيّ و أَرَاوٍ و أَرْوَى: (ح) پہاڑی بکرا (مذکر و مونث دونوں کے لئے)

○ أُوروبا: یورپ، أُورُوبي: (یورپین (صفت و اسم)۔

اری: ا۔ أَرَى ــِ أَرْيًا النحلُ: مکھی کا شہد بنانا۔ الأَرْيُ: شہد۔

۲۔ أَرِيَ صدرهُ عليَّ: وہ مجھ پر غضبناک ہوا أَرَّى النارَ: آگ سلگانا یا بھڑکانا۔ الدابةَ: جانور کے لئے تھان بنانا۔ تَأَرَّى بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ــ عنه: سے پیچھے رہنا۔ الآرِيَّة: جانوروں کا تھان۔

○ آرِي: آرِيَن: (انسانوں کی ایک نسل) آرِيَة: آرین ہونا۔

○ أَرِيحَا: فلسطین کا ایک شہر (Jevicho)

از: ا۔ أَزَّتِ ــُ أَزًّا و أَزَازًا و أَزِيزًا القِدرُ: دیگچی کا جوش مارنا، سنسنانا۔ ــ القدرَ و بها: دیگچی کو جوش میں لانے کیلئے اس کے نیچے آگ جلانا۔ تَأَزَّزَ المجلسُ: اہل مجلس میں اضطراب و اچھل مچنا۔ اسم الأَزَّة الأَزِيز: بادل کی گرج و کڑک۔ ٹھنڈ۔

۲۔ أَزَّہ على كذا: کو پر بھڑکانا، اکسانا، ابھارنا۔ ــ الشيءَ: کو جمع کرنا۔

○ أَزَّ ــِ أزِيزًا: کھولنا، ابلنا، ابلنے کے قریب ہونا۔ بھنبھنا، سائیں سائیں یا فوں فوں کرنا، پھنکارنا، سی سی کی آواز نکالنا، سوں سوں کرنا۔ أَزِيز بھنبھنانا، بھنبھناہٹ، سائیں سائیں یا فوں فوں کرنا، (گولی کی) سیٹی۔

ازب: أَزَبَ ــِ أَزْبًا الماءُ: پانی کا بہنا، رواں ہونا۔ المِئزَاب جمع مَآزِيب والمِيزَاب جمع مَيَازِيب: پرنالہ، گندی نالی، بدرو، پانی بہنے کی جگہ۔

۲۔ الإِزْب: چھوٹا، کمینہ۔

○ إِزْب: چھوٹا اور موٹا، فربہ، موٹا تازہ، گھٹیا، چھوٹے قد کا آدمی۔

○ الأُزبَك: ترکستانی (جمع)

ازج: أَزَّجَ البيتَ: مکان کو لمبا بنانا الأَزَج جمع آزَاج و آزُج: لمبا مکان۔

ازح ا۔ أَزَحَ ــِ أُزُوحًا و تَأَزَّحَ: دیر لگانا، پیچھے رہ جانا صفت: أَزُوح

۲۔ ازحت ــ قدمُهُ: کا قدم پھسل جانا۔

ازد ا۔ الأَزَاد (ن): ایک قسم کی کھجور۔

۲۔ أَزَدَرَخْت و الأَزادَرَخْت (ن) بکائن کا درخت۔

ازر ا۔ أَزَرَ ــِ أَزْرًا بالشيءِ: کو گھیرنا۔ ــ النباتُ: پودا گھ جانا۔ أَزَّرَہ: کو ڈھانپنا۔ تَأَزَّرَ و إِئتَزَرَ: ازار پہننا، تہبند باندھنا۔ الإِزار جمع آزِرَة و أُزُر: پردہ، چادر، تہبند، الأَزْر: پیٹھ کہا جاتا ہے: شَدَّ به أَزْرَہ: اس نے اس کو قوت پہنچائی الأَزْر: بمعنی إِزار۔ الأُزرَة: بمعنی إِزار (عام لوگ اسے الوزرة کہتے

ہیں) تہبند باندھنے کی ہیئت۔ کہا جاتا ہے: لکل قوم إزْرَةٌ یأتزرونها: ہر قوم کا جداجدا طور طریقہ اور رسم ہے۔ المِئزَر و المِئزَرة جمع مآزر: بمعنی ازار کہا جاتا ہے، شد للامر مِئزرة: وہ کام کے لئے مستعد تیار ہوا۔

۲۔ أَزَرَ ـِ و أَزَّرَ فلاناً: کو مضبوط کرنا قوت پہنچانا۔ آزَرَهٗ مُؤازَرَةً: کو مدد دینا۔ الأَزْر: قوت۔ الإزار جمع آزِرة و أُزُر: پشتہ دیوار۔

۳۔ الإزار: اصل، جڑ۔

○ أَزَرَ ـُ أزْراً ہ: کو گھیرنا۔ أَزَّرَهٗ: کو ازار پہنانا۔ ہ/ ہ: کو ڈھکنا، لپیٹنا، کو مضبوط کرنا، کی حمایت کرنا۔ آزَرَهٗ: کی مدد کرنا، تائید کرنا، پشت پناہی کرنا، کو قوت پہنچانا۔ تأزَّرَ و إئتزَرَ: ازار پہننا، اپنے آپ کو ازار سے لپیٹنا۔ تآزر: ایک دوسرے کی مدد کرنا، متحد ہونا، از سر نو جدوجہد کے لئے جمع ہونا، مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لئے مل کر کام کرنا۔ أزر قوت، شدَّ ازره یا شدَّ من ازره: کی مدد کرنا، تائید کرنا۔ حوصلہ افزائی کرنا۔ کی پشت پناہی کرنا۔ شدّ ازرهُ: مستعد ہونا، سرگرم ہونا، طاقت ور ہونا، چاق و چوبند ہونا، تندرست و توانا ہونا، باہمت ہونا، جرأت مند ہونا۔ إزار (مذکر و مونث) جمع أُزُر: لنگوٹی، لنگوٹ، شال، چادر، جبّہ، جبہ، لبادہ، پوشش، پردہ، غلاف، سرپوش، مِئزر جمع مآزر: پیش بند، جبّہ، جبہ، لبادہ، غلاف، سرپوش، پوشش، مُؤازَرَة: تائید، مدد، پشت پناہی تآزُر: باہمی امداد، ایک دوسرے کی مدد۔

ازف: ۱۔ أَزِفَ ـَ أَزَفاً و أُزوفاً: قریب ہونا، ہم کہتے ہیں: ازفت الآزفة اور ازفت الساعةُ: یوم قیامت قریب آگیا، وہ گھڑی قریب آگئی۔ تآزَفَ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ ہم کہتے ہیں: تآزف القومُ: لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوگئے۔ الآزفة: قیامت کا دن۔

۲۔ أَزِفَ ـَ أَزَفاً و أُزوفاً الرجلُ: جلدی کرنا۔ آزَفَ إيزافاً: کو جلد لے جانا۔ الأَزَفی: تیز رفتاری، وچستی۔ یمشی الأزفی: وہ تیز تیز چلتا ہے۔

۳۔ تأزَّفَ المكانُ: جگہ کا تنگ ہونا۔ ـ الرجلُ: پست قد ہونا، بدخلق ہونا، تنگ دل ہونا۔ الأَزَف: تنگی، بدحالی۔

۴۔ أَزِفَ ـَ الجرحُ: زخم کا مندمل ہونا بھر جانا۔

○ أَزِفَ ـَ أَزَفاً و أُزوفاً: وقت کا آنا، قریب آنا، قریب ہونا۔

ازق: أَزِقَ ـَ أَزَقاً و أَزَقَ ـِ أَزْقاً: تنگ ہونا۔ تآزَقَ:

تنگ ہونا۔ المازق جمع مَآزِق: تنگ جگہ، میدان جنگ، تشویشناک صورت حال۔

○ مَأْزِق جمع مَآزِق: تنگ راستہ، رکاوٹ، خطرناک صورت، ناگوار صورت حال۔ مشکل، پریشانی، دوہری مشکل، نازک یا تشویشناک صورتحال، مَأزِقٌ حَرِج: خطرناک صورت، ناگوار صورت حال، دوہری مشکل، پریشانی، بڑی مشکل، نازک یا تشویشناک صورت حال۔

ازل: ۱۔ ازَلَ ـِ أَزْلاً: تنگی و سختی میں پڑنا صفت: أَزِل ـ هُ: کو قید کرنا۔ تأزَّلَ: تنگی و سختی میں پڑنا صفت: أَزِل الأزْل: مصیبت۔

۲۔ الأزَل: ازل، زمانہ جس کی ابتداء کی کوئی انتہا نہ ہو۔ قدم۔ الأزلی: قدیم، دائمی وجود والا جس کی ابتداء نہ ہو۔

○ ازَل جمع آزال: ابد، ابدیت، ازلی، ابدی ازلیّة ـــ: ابدیت۔

ازم: ۱۔ أَزَمَ ـِ أَزْماً و أُزوماً: کو دانت سے کاٹنا۔ الآزِم و الآزِمة و الأَزُوم جمع أُزَّم و أَوَازِم و أُزَّم: کچلی، نوکدار دانت۔

۲۔ أَزَمَ ـِ العامُ: سال کا سخت قحط والا ہونا۔ ـــ الدهرُ عليه: پر زمانہ کا سخت ہونا۔ تأزَّمَ القومُ: لوگوں کا تنگی اور قحط سالی میں مبتلا ہونا، زمانہ کی سختی اور تنگی سے تکلیف اٹھانا۔ الأَزْم: مضر کاموں سے بچنا۔ کہتے ہیں۔ اصلُ كُلِ دَواءِ الازمُ: ہر دوائی کی جڑ پرہیز ہے۔ الأَزْمَة و الأزمة جمع إزَم و أُزَم و ازَمات و أَوازِم: سختی، تنگی، بحران: (ہم کہتے ہیں: ازمة إقتصادية: اقتصادی بحران۔ ازمة سياسية: سیاسی بحران)۔ قحط۔ المأزِم جمع مآزِم: تنگ مقام، میدان جنگ۔

۳۔ أَزَمَ ـِ الحبلَ: رسی کو مضبوط بٹنا۔ ـ بصاحبه: ساتھی کیساتھ ساتھ رہنا، چمٹا رہنا۔ ـــ عليه: کی حفاظت کرنا۔ ـ عن الشئ: سے بچنا۔ ـ الأزِم جمع أُزَّام: پرہیز کرنے والا۔

○ تَأزَّم: (صورت حال، تعلقات کا): سنگین ہونا یا ہو جانا، فیصلہ کن مقام تک پہنچنا۔ ایسے مقام تک پہنچنا جہاں کارروائی کرنا ناگزیر ہو جائے۔

○ ازْمَة: ہنگامی صورت حال، ناگہانی ضرورت، بحران نازک دور، نازک لمحہ، تشویشناک مرحلہ۔ ازمة وزارية: وزارتی بحران۔ وزارتی کشمکش، وزارت کو خطرہ۔ تأزُّم الحالة: تشویشناک صورتحال، صورت حال میں مزید خرابی۔ تأزّم: بحران کا شکار۔

○ ازمیر: سمرنہ (زمانہ سابق میں) شمالی ترکی کی

سمندری بندرگاہ۔

○ إزْميل جمع أزاميل: چھینی، نہانی، بسولی۔

ازن: الأُزُون (ك): آکسیجن کے تین ذرات پر مشتمل ایک گیس۔ ہوا اور پینے کے پانی میں جراثیم کشی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ رنگ نیلی مائل ہے۔

○ ازوت: ازوت: (نائٹروجن کا قدیم نام)۔ نائٹروجن ازوتی: نائٹروجنی۔

ازی: آزَی مُؤازاةً الرجُلَ: ایک کا دوسرے کے مقابل اور قریب ہونا، ایک دوسرے کے مقابل اور قریب ہونا۔ تآزَی تآزِياً القومُ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ تآزَی عنه: سے مڑنا، رکنا۔ إزاء: سامنے، مقابل کہا جاتا ہے: جلس إزاءَه و بإزائه: وہ اس کے سامنے یا مقابل بیٹھا۔ هم إزاءُهم: وہ لوگ ان کے مماثل ہیں۔ الامرِ: کام کا منتظم۔

○ ازی ہ: کے مقابل ہونا۔ ہ/ہ: کے سامنے ہونا۔ إزاء: مقابل، منہ در منہ، سامنے، (کسی صورت حال کے) مقابلے میں، بإزاءِ: کے مقابل، سامنے، علی إزاء: کے مقابلہ میں۔

○ آس: آس، مہندی کی طرح ایک پودا

○ آس جمع آسات: (تاش کا) اکا۔

اس: أَسَّ ـُ أَسّاً الدارَ: گھر کی بنیاد رکھنا أَسَّسَ البيتَ: گھر کی بنیاد رکھنا۔ تأسَّسَ: بنیاد پڑنا۔ الأَسّ و الإسّ و الأُسّ جمع إساس: (عمارت کی) بنیاد، ہر چیز کی ابتداء، الأَساس و الأَسَس جمع أُسُس: (عمارت کی) بنیاد۔ الحجر الاساسی: بنیادی پتھر۔ پہلا پتھر جو عمارت کی بنیاد میں رکھا جاتا ہے۔ ہر چیز کی ابتداء۔ ـ القاعدہ: (ک) جسم جس سے دوسری ہر چیز بنائی جاتی ہے۔ (کیمیاء) تأسیسی: بنیادی۔ المجلس التأسیسی: ملک کے بنیادی قوانین وضع کرنے والی کونسل۔ مُؤسَّسَة: ادارہ، محکمہ، فرم، تنظیم (خواہ علمی ہو یا خیراتی یا اقتصادی) جیسے مؤسسة علمیه: علمی ادارہ مؤسسة صناعیة: صنعتی ادارہ۔

۲۔ أَسَّ ـُ بين الناس: لوگوں میں فساد برپا کرنا الأَسَّاس: چغل خور۔

○ أَسَّسَ ہ: کی بنیاد رکھنا، کو قائم کرنا، نصب کرنا، کی بنا ڈالنا۔ تأَسَّسَ: بنیاد پڑنا، بنیاد رکھا جانا، قائم کیا جانا، نصب کیا جانا۔ أُسّ: بنیاد، تاسیس۔ طاقت کا نشان (ریاضی)۔ أساس جمع أُسُس: بنیاد (نیز عمارت کی بنیاد) بنیادی کام، زمین، بنیادی عنصر، علی أساسِ: کی بنیاد پر، کے باعث، کی سند سے، بسند، کی وجہ سے،

کے سبب سے، کے مطابق، بقدر، حسب۔ لااساس له من الصحة: مکمل طور پر بے بنیاد (خبر، افواہ)

اَساسی: بنیادی، ابتدائی، لازمی، جوہری، بڑا، اہم، اول، اعلیٰ، اصلی۔ حجر اساسی: بنیادی پتھر، نیو کی اینٹ، کونے کا پتھر۔ اَساسیات: بنیادی اصول، اصول۔ تَاسیسات: آسانیاں، سہولتیں، ضروری خدمات (جیسے پانی کی بہم رسائی) خیراتی ادارے۔

مجلس تاسیسی: آئین ساز یا دستور ساز اسمبلی

مُؤَسِّس: بانی۔ مؤسَّسة جمع مُؤسَّسات: ادارہ، محکمہ، فرم، خیراتی ادارہ، تنظیم۔

اسب: ۱۔ إِسْبانخ (ن): پالک (ایک سبزی کا نام)۔

۲۔ اسبداج و إسْفِیداج (ك): کاشغری سفیدہ۔

۳۔ الاسبرین (ك): اسپرین۔

○ الأسبان اسپین کے لوگ، إسْبانی جمع اسبانیون: اسپین کا باشندہ۔ اسبانیا: اسپین (ایک ملک کا نام)

○ إسبِرْتُو: الکحل۔

است: ۱۔ الاست: جڑ، بنیاد، سرین۔

۲۔ الأُستاذ جمع اَساتِذة و أساتید: معلّم، مدبر، عالم (ت): محکمہ جات حساب کا افسر اعلیٰ۔

۳۔ الإستار جمع أساتیر: عدد میں چار، وزن میں ساڑھے چار مثقال۔ (فارسی لفظ)

۴۔ الإستَبْرق: موٹا ریشمی کپڑا۔ ریشم اور سونے کے تاروں کے بنے ہوئے کپڑے۔ (فارسی لفظ)

۵۔ الاستراتیجیة (اع): فن لشکر کشی۔

۶۔ الاستیخارة: مشرقی شاہی کاہنوں کا لباس۔

۷۔ الاستیدیو او استودیو (ف ج): سٹوڈیو (Studio) (نگار خانہ، جہاں فلموں کی تصویر کشی اور ہدایت کاری کا کام سرانجام پاتا ہے)۔

۸۔ الاسیتیلین (ك): بے رنگ بے بو کی ایک زہریلی اور خطرناک گیس۔ جو دھاتوں کو پگھلانے، جوڑنے اور روشنی کرنے کے کام آتی ہے۔

○ إستاتیکی: ساکن۔

○ إستاد: سٹیڈیم (Stadium) (کھیلوں کا میدان)۔

○ اُستاذ جمع اَساتذہ: ماسٹر، ٹیچر، پروفیسر، (دانشوروں جیسے: وکلاء، صحافی، سرکاری اہلکار، ادباء اور شعراء کا خطاب) لیجر (بہی کھاتہ) الاستاذ الاعظم: (فری میسن جماعت کی جلسہ گاہ) گرینڈ ماسٹر، الاستاذ الاکبر: الازہر یونیورسٹی کا ریکٹر (Rector) استاذ کرسی اور استاذ بکرسی: کامل پروفیسر استاذ بلا کرسی: ایسوسی ایٹ پروفیسر۔ استاذ غیر متفرغ: پارٹ ٹائم (جز وقتی) پروفیسر۔ استاذ مساعد: اسسٹنٹ پروفیسر۔ استاذ زائر: مہمان پروفیسر۔ هُم اساتذه في الجدل: وہ مناظرہ یا جھگڑے کے ماہر ہیں۔ اُستاذِیة: استادی، پروفیسری، پروفیسروں کی جماعت۔

استانبول: استنبول، کنسٹنٹینوپل (Constantinople)

الآستانة و الأستانة: استنبول۔

إستَبْرَق: کمخواب، زربفت، دیبا۔

إستراتیجی: لشکر کشی، فوجی مصلحت کا۔

اُستُرالی: آسٹریلین۔ آسٹریلیا کا۔

اُستراليا: آسٹریلیا (ایک ملک کا نام)

إسْتَرْلِیني: سٹرلنگ جنیه استرليني: پاؤنڈ اسٹرلنگ۔

مِنطَقَةُ الاسترليني: سٹرلنگ کا علاقہ۔

○ استوبه: موٹا سن، سن کی رسی، سن کا موٹا ریشہ، پرانے رسوں کا ریشہ جو جہاز کی درزوں میں بھرا جاتا ہے۔ سوت کا گودڑ۔

○ إستُودِيُو جمع استودیوهات: سٹوڈیو (نگار خانہ) کمرہ یا عمارت جس میں فنکار کام کرتا ہے (atelier)۔

○ استوکهولم: سٹاک ہوم Stockholme

○ إستُونیا: استونیا Estonia

○ إستِیَاتیت: ایک قسم کی ابرق۔ ایک قسم کا نرم پتھر جو صابن کی طرح لگتا ہے اور زیورات بنانے کے کام آتا ہے۔

اسد: أَسِدَ ـــ أَسَدًا: شیر کو دیکھ کر اوسان باختہ ہو جانا، دہشت زدہ ہو جانا، اخلاق میں شیر کی طرح ہونا۔ ـــ علیه: کے ساتھ جرأت کرنا تَأَسَّدَ و إسْتَأْسَدَ علیه: کیساتھ جرأت کرنا، شیر کی طرح ہونا۔ الأَسَد جمع أُسْد و أُسُود و أُسُد و أسْد و آساد: شیر (نر مادہ)۔ (چنانچہ کہا جاتا ہے: هو الأسد وهي الأسد: وہ شیر ہے، وہ شیرنی ہے۔ مادہ کو لبوءة اور بچے کو الشبل کہتے ہیں)۔ بہادر۔ داءُ الاسد: جذام

المَأسَدة جمع مَآسِد: وہ جگہ جہاں شیر بکثرت ہوں یا پائے جاتے ہوں۔

۲۔ أَسَدَ ـــ أَسْدًا و آسَدَ إیسادًا و أَسَّدَ تأسیدًا الكلبَ بالصیده: کتے کو شکار کے لئے اکسانا، بھڑکانا، آسَدَ بینَ القوم لوگوں میں فساد ڈالنا۔

۳۔ إستَأسَدَ النبتُ: نباتات کا لمبا ہونا اور ہر طرف پھیلنا۔

○ إستَأسَدَ علی: کے خلاف شیر کی جرأت کا مظاہرہ کرنا۔ کے مقابلہ میں شیر بننا۔

اسر: ۱۔ أَسَرَ ـِ أَسْرًا و إسارةً ہ: کو تسمہ سے باندھنا۔ کو قبضہ میں کر کے قید کرنا۔ إسْتَأْسَرَ: اپنے آپ کو بطور قیدی کے حوالے کرنا۔ ـــ ہ: کو قید کرنا۔ کو قیدی بنانا۔

الأَسْر (مص): کہا جاتا ہے: هذا لك بأسْرِه: یہ سب کا سب تمہارے لئے ہے۔ الاسار: تسمہ، الأُسْر: پیشاب کا رکنا۔ الأسِیر جمع أَسْرَی و أُسَراء و أُسَاری و أَسَاری: قیدی۔ أسْرَی الحرب: جنگی قیدی۔

۲۔ تَأَسَّرَ علیه: پردہ کرنا۔ إسار: بایاں الأُسْرة جمع أُسَر: خاندان۔ جسے عائلة بھی کہا جاتا ہے۔ مضبوط زرہ۔

۳۔ مأسورہ جمع مَواسِیر: (پانی کی) نالی، نلکی (تمبا کو نوشی کی) نالی، نلکی۔

۴۔ الأُسْرُب و الأُسْرُوب و الأُسْرُبّ: سیسہ (فارسی لفظ)

○ أَسَرَ ـــ أَسْرًا ہ: کو باندھنا، بیڑیاں ڈالنا، پابہ زنجیر کرنا۔ زنجیروں میں جکڑنا، گرفتار کرنا، قید کرنا، قیدی بنانا، کو لبھانا، موہ لینا، فریفتہ کرنا، گرویدہ کرنا، کو مسحور کر دینا، مبہوت کر دینا، کی توجہ حاصل کرنا، کے لئے جاذب توجہ ہونا۔ ـــ إسْتَأسَرَ: سپر انداز ہونا، ہتھیار ڈال دینا۔ اطاعت قبول کرنا، اپنے آپ کو بطور قیدی پیش کرنا۔ أَسْر: (چمڑے کا) تسمہ، پٹی، فیتہ، تسخیر، قبضہ، اسیری، قید، گرفتاری۔ شِدَّة الأسر: زور، طاقت، توانائی، أُسْرة جمع أُسَر: خاندان، کنبہ شاہی سلسلہ، خاندان سلاطین، چھوٹا قبیلہ، برادری، عزیز رشتہ دار، اعزہ و اقارب، بھائی بند۔ بِأسْرِهِ: مکمل طور پر۔ سب کے سب جاؤوا بأسرهم: وہ سب آئے، وہ سب کے سب آئے۔ إسار: (چمڑے کا) تسمہ، پٹی، فیتہ، اسیری، قید، گرفتاری، دل فریبی، گرویدگی، غلام بنانا۔ وقعَ في إسارة: کا ہدف بننا، کی گرفت میں آ جانا۔ أسِیرة جمع أسیرات: عورت قیدی، لونڈی آسِر: دلکش، دلفریب، گرفتار کرنے والا، انعام جیتنے والا۔ مَأسُور ب: کے ذریعہ فریفتہ، جادو کیا ہوا گرویدہ، مسحور، غلام بنایا ہوا، اسیر۔

○ اسرائیل: اسرائیل، بنو اسرائیل، اسرائیلی (جمع) دَوْلَةُ اسرائیل: اسرائیلی ریاست۔ إسرائيلي: اسرائیلی (صفت و اسم)، اسرائیلیات یہودی روایات۔

○ إسْرَافِیل: وہ فرشتہ جو قیامت کے دن صور پھونکنے پر مامور ہے۔

○ اسطامبول استنبول (ترکی شہر)

○ اسطبل: اِصطبل، کھلیان، غلہ گودام،

○ اُسْطُبَة: دیکھو ا۔ (استوبة)

اسط :ا- الإسْطاطيقي: جماليات (Aesthetics)

٢- الإِسْطَبْل: جمع إسطبلات: اِصطبل۔

٣- اُسْطر الصين (ن): ایک پھولدار پودا۔ اللؤلؤية کے کام سے بھی مصروف ہے۔

٤- الاسطر اغالس (ن): ایک خاردار درخت، کئی قسموں پر مشتمل ہے۔ اس سے گوند نکالی جاتی ہے۔ کئی طبی استعمالات کا حامل ہے۔

٥- الأسْطُرلاب: (فلک) ایک آلہ جس سے ہیئت دان ستاروں کی بلندی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ رات اور دن کی گھڑیوں اور مختلف فلکی مسائل کے حل کا کام بھی دیتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں۔ (٢) سطح، خطی وغیرہ (Astrolabe)

٦- الأسطقس و الإسْطَقِس: اصل، جز، مادہ، قدماء کے نزدیک یہ عناصر اربعہ کا نام ہے۔ یعنی پانی، زمین، ہوا اور آگ (عنصر Element)۔

٧- الأسطوانة جمع أساطين وأساطنه: ستون، کھمبا (کہا جاتا ہے: هم اساطين الزمان: وہ لوگ زمانہ کے ممتاز افراد اور حکماء ہیں) جانور کی ٹانگ، فونو گراف (یا گراموفون) یعنی صوت نگار آلہ۔ ریکارڈ (گراموفون کا توا)۔

٨- اسطوانه: سلنڈر Cylinder

٩- الأسطورة جمع اساطير: قصہ، حکایت، (جو خیالی اختراعات اور عوامی تقالید کی آمیزش کا حامل ہو)۔

١٠- الأسطول جمع اساطيل: بحری جہازوں، جنگی تجارتی طیاروں یا شکاری کشتیوں کا بیڑہ۔ (Fleet, Squadron)۔

○ اُسْطُوانَة جمع اُسطوانات: ستون، سلنڈر، فونو گراف، ریکارڈ جمع اساطين: بلند رتبہ اور ممتاز شخصیات، نامور اشخاص (ستارے)، مشاہیر، حکام، ارباب اختیار، ماہرین، عظیم فنکار، اساطين الفن: بمعنی عظیم فنکار۔ اسطوانی: سلنڈر کا، سلنڈر کے متعلق۔

○ اُسْطورة جمع اَساطِير: روایت، داستان، من گھڑت قصہ، حکایت، کہانی، دیوی دیوتاؤں کا قصہ، بے اصل داستان، رزمیہ داستان، اُسْطُوري: افسانوی، من گھڑت، بے سروپا، فرضی، خیالی، پرافسانہ، روایتی۔

○ اُسْطَى: (استاذ کے معنی میں) جمع اُسطوات: ماہر، فنکار، فورمین (جیوری کا) سربراہ، اوورسیر (Overseer) نگران، (ٹیکسی ڈرائیور، گاڑی بان، کوچوان، بس ڈرائیور وغیرہ کو بھی اُسْطى کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں انہیں استاد جی کہا جاتا ہے۔)

اسف :ا- اَسِفَ ـ اَسَفًا عليه: پر غمگین ہونا افسوس کرنا صفت آسِف، آسَفَ اِيسافًاهُ: کو غصہ دلانا، غمگین کرنا۔ تَأَسَّفَ: افسوس کرنا کہتے ہیں: يا اسفی و یا أَسفا على كذا: مجھے اس کے کھو جانے پر کس قدر حسرت و اندوہ ہے۔ الأسافة: افسوس الأسُوف: جلد غمگین ہونے والا، لازم دل۔ الأسيف جمع اُسَفاء مؤنث أسِيفة: غمگین، ملول۔ یہ لفظ ڈھارس بندھانے کیلئے خط کے آخر میں لکھا جاتا ہے۔

٢- الأسافة: زمین کی نرمی۔ الأسيف جمع الأسفاء: مؤنث الأسِيفَة: وہ شخص جو موٹا نہ ہوتا ہو۔ ارضٌ اسِفَة و اُسَافَة: بنجر زمین، کاشت کے لئے ناموافق زمین۔

٣- الإسْفَنْج واحد إسْفَنْجَة (ح): اسپنج۔

٤- الإسْفَنْد و السِفَنْد (ن): سفید رائی۔

○ أَسِفَ ـ أسَفًا على/ ل: پر متاسف ہونا، پچھتانا۔ على: کا افسوس کرنا، کے بارے میں غمگین ہونا۔

اَسَف: سخت غم، باعث غم، وجہ، ملال، دکھ، رنج، غم، الم، اندوہ، جھنجلاہٹ، افسوس، تاسف۔ وا اسفاه: اف، بڑے افسوس کی بات ہے، کتنی بری بات ہے! و يالَلأسف يا سرف لِلأسف: بدقسمتی سے افسوس ہے کہ۔ مَعَ الأسف و بِكُلِّ اَسَفٍ: بدقسمتی سے، افسوس ہے کہ۔ آسِف و أسِيف متاسف: غمگین، رنجیدہ، افسردہ، ملول، مغموم، پریشان، تَأَسُّف: رنج، ملال، دلگیری، آزردگی، آسِف: غمگین، متاسف: رنجیدہ، تركته غير آسِفٍ: میں نے اسے رنج و ملال کے بغیر چھوڑا، میں اس سے رخصت ہو کر بہت خوش تھا۔ ماسوف عليه: مرنے والا جس پر غم کیا گیا، آہ و زاری کی گئی، نوحہ کیا گیا، غم و افسوس کیا گیا۔ مؤسِف: قابل افسوس، پریشان کن، تکلیف دہ، مغموم کن، اندوہ گین۔ مُتَأَسِّف: غمگین، اندوہگیں، رنجیدہ، افسردہ، ملول، متاسف۔ مُتَأَسِّف! معاف کرنا!

○ إِسْفاناخ و إِسْفانَخ: پالک۔

○ اُسْفَلْت: اسفالٹ (asphalt)

○ إِسْفَنج و اِسْفَنْج: اسفنج، اسپنج (Sponge)

إسْفَنْجي: اسپنج کا سا۔ اسفنجی: مسام دار۔

○ اِسْفِنْدان: میپل۔ ایک قسم کا درخت جس سے کھانڈ بنائی جاتی ہے۔

○ اِسْفِيذاج: سفید سیسہ، سیسے سے بنا ہوا سفید مسالہ جسے بطور غازہ استعمال کیا جاتا ہے۔

○ اِسْفِين: جمع اَسافِين: پھانہ، پچڑ

○ اسقربوطى: مرض اِسْقَربُوطي: فساد خون، خارش۔

اسق: ا- إِسْقُمْرِي (ح): لمبی اور خوش ذائقہ گوشت والی سمندری مچھلی، ماکرل Mackerel۔

٢- الإسْقَنْقُور و السَقَنْقُور (ح) ایک رینگنے والا جانور جو گرم ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ گرگٹ سے بڑا اور موٹا ہوتا ہے۔ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ خشکی کا نگر مچھ بھی کہلاتا ہے۔

○ اُسْقُف جمع اُساقِفة و أساقِف: بشپ، پادری (bishop) رئيس الاساقفه: لاٹ پادری۔ اُسْقُفي: اسقف (پادری) کے ماتحت یا اختیار میں اُسْقُفِية: پادری کی سرکاری حیثیت۔ ایک پادری کے ماتحت علاقہ۔

○ اِسْقِيل: سمندری پیاز کی ایک مشرقی قسم۔

○ اِسْكِتْش: خاکہ، نقشہ، اسکیچ sketch

○ اِسْكُتْلَندا: سکاٹ لینڈ (ملک کا نام)

○ اِسْكُتْلَندي: سکاٹ لینڈ کا، سکوچ

○ اسكل: الإسْكِلة جمع أساكِل: بحر روم کی ایک بندرگاہ کا نام۔

○ اِسْكَمْلَة: سٹول، فٹ سٹول۔

○ اِسْكِنْدَرُونة: (جنوبی ترکی کی بندرگاہ کا نام)

○ الإسْكَنْدَرِية: اسکندریہ (شمال مصر کا ایک شہر)

○ اِسْكَنْدِينافيا: سکینڈے نیویا (ملک کا نام)

اسل: اَسِلَ ـ اَسَلاً و أَسُلَ ـ أَسالَةً: نرم و ہموار ہونا، دراز ہونا، چکنا ہونا۔ صفت: اَسِيل مونث اَسِيلَة: قدہ۔

خدٌّ اسيل: نرم دراز چکنا رخسار۔ اَسَّلَ الرمحَ: نیزہ کو تیز کرنا تَأَسَّلَهُ: اخلاق و عادات میں کے مشابہ ہونا کہا جاتا ہے۔ هو على آسالٍ من ابيه: وہ اپنے باپ کے مشابہ ہے۔ (آسال کا مفرد نہیں آتا)۔ الأسَل: نیزہ، ہر تیز اور پتلا لوہا۔ مثلاً تلوار اور چھری وغیرہ (کہا جاتا ہے: جَمَعَ بَيْنَ اليراع والأسَل: اس نے قلم اور نیزہ یعنی علمی آداب اور جنگی آداب کو باہم مربوط کیا) (ن) پتلی اور لمبی شاخوں والا ایک پودا۔ واحد اَسَلَة (ٹوکریوں اور کریوں کو بننے کے کام آتا ہے۔) الأسَلة: زبان کی نوک، بازو کا اگلا حصہ، (کہا جاتا ہے۔ لايزال هذا الأمر على أسَلَةِ لِسانِهِ: وہ ہمیشہ یہ کام کرتا رہتا ہے۔)

○ أَسَّلَ ہ: کو تیز کرنا۔ کی نوک نکالنا کو مخروطی بنانا،

الأَسَل: (اسم جنس): نرکل، سینٹھا، جس کے
مونڈھے وغیرہ بنتے ہیں۔ اَسَلَۃ ج أَسَلات: کانٹا،
کیل، میخ، دوشاخہ، دوسول نوک (نب (قلم کی)،
زبان کی نوک۔ الحروف الاسلیۃ: س، ز، ص
أَسِیل: ہموار۔ خد أسیل: ہموار گال۔ مَسالۃ
بیضوی شکل۔ مُؤَسَّل: نوکدار گاؤدم۔

○ إِسلامبولي: (استانبولی) استنبول کا (استنبول ترکی کا
ایک شہر)۔

إِسلانْدَہ: آئس لینڈ (ایک ملک کا نام)

اسم: الاسم: دیکھو س م و۔

۲أُسامَۃ: شیر کا علم جنس۔

۳الأَسْمَنْت (ك): سیمنٹ (cement)

○ اَسْمانْجوني: آسمانی نیلا، نیلا آسمانی، نیلگوں،
لاجوردی، گہرے نیلے رنگ کا۔

○ أَسْمَرَہ: ملک اریٹیریا کے دارالحکومت کا نام۔

○ أَسْمَنْتي: سیمنٹ کا۔

اسن: أَسَنَ ـِ أَسْنًا و أُسُونًا الماءُ: پانی کا متغیر ہونا
صفت آسِن: (جس کا ذائقہ رنگ اور بو متغیر ہو)۔
أَسِنَ ـَ أَسَنًا الرجلُ: سڑے ہوئے پانی والے
کنوئیں میں داخل ہونے سے بیہوش ہو جانا، سر چکرانا۔
صفت أَسِن، ـ الماءُ: پانی کا متغیر ہونا۔ تأسَّنَ
الماءُ: پانی کا متغیر ہونا۔ ـ وُدُّہ: کی دوستی کا بدل جانا۔
ـ أباہ: باپ کے اخلاق اختیار کرنا۔ الأُسْن ج أُسَان:
بقیہ چربی۔ الأُسَان: پھٹے اور بوسیدہ حصے، آثار
قدیمہ۔ أُسانُ الثیاب: کپڑے کے پھٹے اور بوسیدہ
حصے۔

○ اَسَنَ ـُ و اَسِنَ ـَ اَسْنًا: پانی کا کھاری اور نمکین ہو
جانا۔ آسِن: کھاری، نمکین۔

اسا: أَسا ـُ أَسْوًا و أَسًا الجرحَ: زخم کی دوا کرنا۔
أَسَّی تَأْسِیَۃً الرجلَ: کا علاج کرنا۔ الإِساء ج
آسِیَۃ: دوا۔ الأُسُوّ: دوا۔ الآسي ج أُساۃ و
إِساء: مونث آسِیَۃ ج آسِیات و أَواسٍ:
طبیب، معالج۔

۲أَسا ـُ أَسْوًا و أَسًا الرجلَ: کو تسلی و دلاسا دینا
صفت مفعول: أَسِيّ و مَأْسُوّ۔ أَسَّی تَأْسِیَۃً
الرجلَ: کو تسلی دینا، دلاسا دینا۔ تأسّی: صبر کرنا، تسلی
کرنا۔ تَأَسَّی القومُ: ایک دوسرے کو تسلی دینا۔
الأُسْوَۃ و الإِسْوَۃ ج أُسًی و إِسًی: وہ چیز جس
سے تسلی حاصل کی جائے۔ الأُسْوان: غمگین۔
التأساء: تعزیت، تسلی۔
آسَی ـُ أَسْوًا و أَسًا بینھم: لوگوں کے درمیان صلح
کرنا۔ ـہ بفلان: فلاں شخص کو کے لئے نمونہ بنانا۔
أَسَّی تَأْسِیَۃً الرجلَ: کی مدد کرنا۔ مُؤاساۃً
الرجلَ فی مالِہ: کے ساتھ مالی ہمدردی کرنا، کہا جاتا
ہے: أَسَیْتُہ بنفسي: میں نے اس کو اپنے برابر
کیا۔ تأسَّی و ائْتَسَی بہ: کی پیروی کرنا، اقتداء
کرنا۔ الأُسْوَۃ و الإِسْوَۃ ج أُسًی و إِسًی:
نمونہ۔ اقتداء۔

○ أَسا ـُ أَسْوًا و أَسًا ہ: زخم کا علاج کرنا۔ ـ بین:
کے درمیان، مابین صلح کرانا۔ أَسِيَ (أسی و أسًا):
غمگین ہونا، ملول ہونا، رنجیدہ ہونا، پریشان ہونا۔
کو تسلی دینا، دلاسا دینا، کی تیمارداری کرنا۔ آساہ: کو
اپنی دنیوی سامان میں شریک کرنا، حصہ دار بنانا، کے
ساتھ سخاوت کرنا، کی مدد کرنا، کو سہارا دینا، کو تسلی دینا،
دلاسہ دینا۔ ـہ: کا علاج کرنا، دوا سے درست کرنا۔

○ تأسَّی: تسلی حاصل کرنا، تسکین پانا۔ تآسی: دنیوی
املاک میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، باہمی
مدد دینا۔ أَسًی: رنج و غم، ملال، دکھ، مصیبت، تاسف،
أُسْوَۃ و إِسْوَۃ: مثال، نمونہ۔ أُسْوَۃً ب: کی مثال یا
نمونہ پر عمل کرتے ہوئے، کے راستے پر، کی طرح،
مَأْساۃ ج مَآسٍ: ٹریجڈی، ڈرامۂ مأساویۃ: تسلی،
دلاسہ، دلجوئی، ڈھارس۔ مُواساۃ: تسلی، دلاسہ،
دلجوئی، ڈھارس، سخاوت، خیرات، داد و دہش، احسان۔
إِسْوار و أُسْوار ج أَساوِر و أَساوِرۃ: بازو بند،
کنگن، چوڑی، پہنچی۔

○ أُسْوان: جنوبی مصر کے ایک شہر کا نام۔

○ أُسوج: سویڈن (ملک کا نام)۔ أُسُوجي: سویڈن
کا۔

اسی: أَسِيَ ـَ أَسًی لہ من الشيء: کے لئے کسی چیز
میں سے کچھ باقی چھوڑنا۔ الآسِیَۃ ج أَواسٍ:
ستون، کھمبا، کہا جاتا ہے: ملک ثابت الأواسي:
مضبوط سلطنت والا بادشاہ۔

۲أَسِيَ ـَ أَسًی: غمگین ہونا۔ صفت أَسٍ و أَسْیان و
أَسْیانون مونث أَسِیَۃ و أَسْیانَۃ ج أَسْیانات و
أَسِیات و أَسایا۔ المأساۃ: شدید حادثہ، حزنیہ
المیہ، ٹریجڈی، ڈرامہ۔

○ آسیا: ایشیا (براعظم)۔ آسیا الصغری: ایشیا
کوچک۔ آسیوي: ایشیائی (صفت و اسم)

○ أَسْیوط: (وسطی مصر کے ایک شہر کا نام)

اش: الأَش: سوکھی روٹی

اشب: أَشَبَ ـِ أَشْبًا القومَ: بعض کو بعض کے ساتھ
ملانا۔ أَشِبَ و ائْتَشَبَ القومُ: گھل مل جانا
الأُشابَۃ ج أَشائب: لوگوں کا مخلوط گروہ، وہ کمائی
جس میں حرام ملا ہوا ہو۔ حسب مُؤْتَشِب: غیر
خالص نسب۔
أَشِبَ ـَ أَشَبًا و تأشَّبَ الشجرُ: درخت کا گنجان
ہونا، گھنا ہونا۔ صفت أَشِب: کہا جاتا ہے: غَیْضَۃٌ
أَشِبَۃ: گھنا جنگل۔ الأَشَب: درختوں کی ایسی کثرت
کہ ان میں گزر نہ جا سکے۔

۲أَشَبَ ـِ أَشْبًا: کو ملامت کرنا، پر عیب لگانا۔

○ تأشَّب: (ہجوم کا) مخلوط ہونا، مختلف العناصر ہونا۔
مختلف قسم کے لوگوں پر مشتمل ہونا۔ أُشابَۃ ج
أُشائب: مخلوط اور مخلوط قسم کے لوگوں پر مشتمل ہجوم/
بھیڑ۔

○ إِشْبِیلِیَۃ: (جنوب مغربی ہسپانیہ کے ایک شہر کا نام
(Leville)

إشبین ج أشابین: دیکھو ش ب ن۔

اشر: أَشَرَ ـِ أَشْرًا الخشبۃَ: لکڑی کا تختہ چیرنا۔ المِئْشَر
(والأُشُر و أُشُرَۃ) المنشار: آری کے دندانے۔
المِنْشار ج مَناشیر و مَواشیر: آری۔ آرہ۔

۲أَشَرَ ـِ و أَشَّرَ الأسنانَ: دانت تیز کرنا۔ الأُشُر
و الأَشْر ج أُشُور: دانتوں کی تیزی (پیدائشی یا
مصنوعی)۔

۳الآشِر ج أَواشِر (ح): ٹڈی کے پاؤں کا کانٹا،
ٹڈی کی دم کے سرے کی گرہ۔ المِئْشَر ج مَآشِیر
(ح): ٹڈی وغیرہ کا وہ عضو جس سے وہ کاٹنے کا کام
لیتی ہے۔

۴أَشَّرَ علی ورقۃ: پر شرح لکھنا۔ أَشَّرَ علی جواز
سفرہ او اجازتہ: پر ویزا لگانا۔ التأشیر: تصدیق،
ظاہری تصدیق۔ منظوری ویزہ۔
أَشِرَ ـَ أَشَرًا: مغرور ہونا، اکڑنا۔ صفت أَشِر و أَشُر و
أَشْران ج أَشِرون و أُشَرون و أَشارَی و
أُشارَی۔

○ أَشَرَ ـُ أَشْرًا ہ: کو آری سے چیرنا۔ ـہ: کو ریتی
کرنا، کو ریتی سے تیز کرنا، رگڑنا۔ أَشَّرَ ہ: پر نشان
لگانا، کو داخل کرنا، کو ظاہر کرنا، کو قلمبند کرنا، ضبط تحریر میں
لانا۔ ـ ویزلہ علی: کو ویزہ مہیا کرنا۔ أَشَر: زندہ
دلی، جوش و ولولہ، ہمت، بہتات، کثرت، ریل پیل،
افراط، جلد بازی، بیتابی، وحشت، خودروی، گستاخی،
بدتمیزی۔ أَشِر: زندہ دل، خوش طبع، شگفتہ خاطر، تیز
چست، لبریز، مالا مال، وحشی، گستاخ، بدتمیز، خود پسند،
مغرور، متکبر۔ مِئْشار ج مَآشیر: آرہ۔ تأشیر:
سرکاری تصدیق کا اجراء، سرکاری تصدیق، منظوری،

ویزہ۔ تَاشِیرۃ جمع تاشیرات: ویزہ۔ تاشیرۃ مُرُور او تاشیرۃ اجتیاز: گزرنے یا عبور کرنے کا ویزہ (transit visa)۔ مُؤَشِّر: نشانی، علامت، بتانے والا آلہ، سوئی۔ مُؤَشَّر: نوکیلے کونوں والا، دندانہ دار۔ ــــ ب: سے، کے ذریعہ نشان لگایا ہوا۔ معین کیا ہوا، صراحت کیا ہوا۔

اشقل الإشْقِيل (ن): ایک پودا جو دواء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو "بصل الفار" بھی کہتے ہیں۔

اشن ا۔ الأُشْنان و الإشْنان (ك) پوٹاش، ایک قسم کی بوٹی جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔

۲۔ الأُشْنة (ن): ایک قسم کی نباتات جو درختوں اور پتھروں یا میٹھے پانیوں یا سمندروں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کلوروفیل کا مادہ نہیں ہوتا۔ طحلب کے نام سے بھی معروف ہے یعنی کائی۔

○ اشور: اَشُور: اسیریا (ملک کا نام) اُشوری: اسیریا کا، اسیریا کا باشندہ (صفت و اسم)

اص: أَصَّ ــــ الشیءَ: کو توڑنا، کو ہموار کرنا۔ أَصَّصَ الشیءَ: کو مضبوط کرنا۔ تَأَصَّصُوا و انْتَصُّوا: جمع ہونا۔ بھیر کرنا۔ الأَصِيص جمع أُصُص: ٹوٹا ہوا برتن۔ گملہ، پیشاب کا برتن۔ الأَصِيصة: پاس پاس یا گردو پیش کے مکانات۔

اصد: أَصَدَ و آصَدَ البابَ: دروازہ بند کرنا، صفت مفعولی: مُوصَد ــ اَصَّدَہُ: کو چھوٹی قمیص پہنانا۔ الأُصْدةُ جمع أُصَد و إصاد: چھوٹی قمیص۔

اصر ا۔ أَصَرَ ــِ أَصْرًا الشیءَ: کو توڑنا۔

۲۔ أَصَرَ ــِ أَصْرًا فلانًا علیه: کو پر مہربان بنانا۔ الآصِرَۃ جمع أَوَاصِر: رشتہ، تعلق، مہربانی کہا جاتا ہے: ما تأصرنی علی فلان آصِرۃ: مجھے فلاں شخص پر رشتہ داری مہربان نہیں بناتی۔

۳۔ أَصَرَ ــِ الخیمةَ: خیمہ کے لئے میخ بنانا آصَرَہُ مُوَاصَرَۃً: کا پڑوسی ہونا۔ تَآصَرُوا: باہم پڑوسی ہونا۔ ــ اِئْتَصَرَ النبتُ: پودوں کا لمبا، گنجان اور آس پاس ہونا۔ السقومُ: لوگوں کا تعداد میں زیادہ ہونا۔ الإصار جمع أُصُر و الأَیْصَر جمع أیاصِر و الإصارَۃ: خیموں کی رسیوں کا کھونٹا یا کیلا۔ الأَصْر و الإصر و الأُصر جمع آصار: عہد و پیمان۔

۴۔ الأصر و الإصر و الأُصر جمع آصار: بوجھ، گناہ، کہا جاتا ہے: ربّنا لا تحمل علینا إصرًا: اے ہمارے پروردگار ہم پر بھاری بوجھ یا گناہ نہ ڈال۔

○ اِصْر جمع آصار: عہد، معاہدہ، اقرار، عہد نامہ، عہد و پیمان، قول و قرار، میثاق، بوجھ، بار، گناہ، جمع آصار ایکا، اتحاد، بندھن، رشتہ، تعلق۔ آصِرَۃ جمع أَوَاصِر رشتہ، بندھن، تعلق او اصر الوَلاء: دوستی کے رشتے فرض، احساس ذمہ داری، ذمہ داری، وعدہ۔

اصطبل: اِصْطَبْل: اصطبل۔

۲۔ أَصْطُرُك (ن): ایک قسم کا درخت جو لبن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خوش منظر ہے، اس کے پھول سفید اور مالٹے جیسے ہوتے ہیں۔ اور صحتمند فوائد رکھتا ہے۔

۳۔ الأُصْطُوانة جمع اصاطین و اَصَاطِنه دیکھو: اسطوانہ۔

اصف: الأَصَف (ن): ایک قسم کی خاردار جھاڑی۔

○ اِصْفَهان: مغربی وسطی ایران کے ایک شہر کا نام۔

اصل ا۔ أَصُلَ ــُ أَصالةً: جڑ والا ہونا، جڑ پکڑنا، شریف الاصل ہونا صفت: اَصِیل: أَصَّلَهُ: کو جڑ والا بنانا، کی اصل بیان کرنا یا شرافت بیان کرنا۔ تَأَصَّلَ: جڑ والا ہونا، جڑ پکڑنا۔ اِسْتَأْصَلَ الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ ــ تِ الشجرۃُ: درخت کا جڑ پکڑ لینا۔ الأَصْل جمع أُصُول: جڑ، پہاڑ کی جڑ۔ تہ۔ اصل الشجرہ درخت کا تنہ (کہا جاتا ہے: مافعلته اصلًا: میں نے قطعاً یہ کام نہیں کیا) والد، مصدر، منبع (کہا جاتا ہے: لا اصل لہ و لا فصل: اس کا نہ تو کوئی والد ہے نہ بیٹا یا نہ اس کا کوئی حسب ہے نہ زبان)۔

الأُصُول وہ قوانین و قواعد جن پر کسی علم کی بنیاد ہو۔ اصول الدین: دین کے قوانین و قواعد۔ اصول العلوم: علوم کے قوانین و قواعد الاصیل شریف الاصل بغیر وکیل خود لین دین کرنے والا۔ الأَصِیلة: جڑوالی۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا باصیلتهم: وہ تمام کو لے آئے۔

۲۔ أَصُلَ ــُ أَصالةً رأیُهُ: کی رائے کا اچھا ہونا صفت: اصیل اَصالة و اِصالة الرائی: رائے کی عمدگی۔

۳۔ آصَلَ اِیصالًا: شام کے وقت میں داخل ہونا، بوقت شام آنا۔ الأَصِیل جمع آصال و أصائل و أُصُل و أُصلان: عصر و مغرب یا شام کا درمیانی وقت۔

○ أَصُلَ ــُ أصالة: مضبوط جڑوں والا ہونا ہو جانا، مضبوط بنیادوں پر استوار ہونا، قائم ہونا، شریف الاصل ہونا۔ أَصَّلَ ہ: کی بنیاد رکھنا، کی بناڈالنا۔ کو مضبوط بنیاد فراہم کرنا، کی بنیاد، یا اصل قائم کرنا، استوار کرنا تَأَصَّلَ: مضبوط جڑ والا ہونا یا ہو جانا، گہری جڑ والا ہونا گہرا، پکا یا پختہ ہونا، جڑ پکڑنا، مضبوطی سے استوار ہونا، قائم ہونا۔ ــــ من: سے اپنی اصل حاصل کرنا۔ اِسْتَأْصَلَ: کو جڑ سے اکھیڑنا یا اکھاڑنا، جڑ بنیاد سے اکھیڑنا، کا قلع قمع کرنا، کو نیست و نابود کرنا، کوئی عضو آپریشن کے ذریعے نکالنا۔ استاصل شافتهٗ: کو یکسر جڑ سے اکھیڑنا کا یکسر قلع قمع کرنا، کا استیصال کرنا۔

اصل: جڑ، تنہ (درخت کا)، اصل، سرچشمہ، منبع، وجہ، سبب، پشت، پیڑھی، نسل و مذہب، سلسلہ نسب، شجرہ نسب، نسب، اصل نسل، بنیاد، اصل طبع زاد جمع اصول: اصول، بنیادی حقیقت، علت و معلول کا اصول یا سلسلہ، بنیادی اصول، اصول، بنیادی اصول، بنیادی حصہ، مبادی، مبادیات، بنیادی قواعد۔ بدیہیات، اولیات، غیر منقولہ جائیداد، زرعی جائیداد، اثاثہ، املاک، دولت سرمایہ۔

اَصْلًا: دراصل، بنیادی طور پر، ابتداء، نفی کی صورت میں) ہرگز نہیں کسی صورت میں بھی نہیں، کسی طرح نہیں، قطعاً نہیں، فی الاصل دراصل، شروع میں اصول الفقه: اسلامی فقہ کی چار بنیادیں (قرآن، سنہ، قیاس، اجماع) اصول و خصوم: اثاثے اور قرض، اصول مُضاعَفة: دوہری کھاتہ نویسی۔ (double entry booke keeping) حسب الاصول: مناسب طور پر، ضوابط کے مطابق۔ اصلی: اولین، قدیمی، قدیم ترین، طبع زاد، پہلا، اول، ابتدائی، اصلی، بنیادی، خالص، کھرا، بے میل، حقیقی، مصدقہ، مستند، قابل اعتماد، معتبر، اعلیٰ، عمدہ، بڑا، خاص، صدر، بڑا اہم، سربرآوردہ، عظیم، مقدم، مرکزی۔ الثمن الاصلی: قیمت خرید۔

الجهات الاصلیة: (کمپاس کے) بنیادی نقاط و علامات عدد اصلی: اصلی عدد عضو اصلی: باقاعدہ رکن اصولی: قواعد کے مطابق، عام یا مروجہ اصولوں کے مطابق، روایتی، معمولی، حسب معمول، حسب رواج، عام، ماہر قانون (آجکل بمعنی بنیاد پرست (fundamentslist) بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جمع الاصولیون) اصیل جمع اصلاء: شریف الاصل، شریف النسب، اولین، قدیمی، قدیم ترین، پہلا، اول، ابتدائی، مصدقہ، مستند، حقیقی، خالص، مناسب، واقعی، اصلی، مضبوطی، ٹھوس، معقول، درست، قوی، مضبوط، دانشمندانہ، ہوشمندانہ، مضبوط کردار کا حامل، پکا، ثابت قدم، استوار، گہری جڑوں والا، وطن کا، دیسی، ملکی، پیدائشی، الاصل الاصیل اصلی وجہ۔ اصیل الرأی: معقول اور صحیح سمجھ و بصیرت رکھنے والا۔ اصیل جمع آصال و اصائل: غروب آفتاب سے قبل کا وقت، سہ پہر اَصالة: پختگی، ثابت قدمی، استقلال، کردار کی قوت، نسبی شرافت، نسلی

پاکیزگی۔ اَصَالَۃً: فوراً، بلاواسطہ، ذاتی طور پر، اِصالۃُ الرای: سمجھ و بصیرت کی پختگی، شستگی، معاملہ فہمی، تدبر۔ بالا صالۃ عن نفسہ: ازخود، خود بہ خود، آپ ہی آپ، ذاتی طور پر۔ علیحدگی میں، الگ (اس کے مقابل بالنیابۃ عن غیرہ ہے)۔

اَصالۃً وبِنیابۃً: بلاواسطہ اور بالواسطہ۔ تاصیلۃ: شجرہ نسب، سلسلہ نسب۔ متاصِل: جس کی جڑیں گہری ہوں، مزمن (بیماری)۔

اضّ: اَضّ ـُ اَضًّا الیہ: کو پر مجبور کرنا، مضطر کرنا۔ ـــ فلانًا: کو تھکا دینا۔ اِئتَضّ الیہ: پر مجبور ہونا، مضطر ہونا۔ الاِضّ: اصل، جڑ، کہا جاتا ہے۔ فلانٌ کریم الاِضّ: فلاں شخص شریف الاصل ہے۔ الاِضاض: پناہ لینے کی جگہ، جائے پناہ۔

اصل: اصالیا (ن): ایک قسم کا پودہ جس کے پھول بڑے بڑے اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ اسے اَنَغَلِیا بھی کہا جاتا ہے۔

اضی: الاَضاۃ جمع اَضًی و اَضَیات: تالاب، جوہڑ۔

اطّ: اَطّ ـِ اَطِیطًا: آواز نکالنا۔ ـــ الرجلُ: بھوکا ہونا۔ ـــتِ الابلُ: اونٹوں کا بولنا۔ کہا جاتا ہے۔ اَطَّت لہ رَحِمی: میری رشتہ داری کو اس پر رحم آیا۔ واَطَّت بکَ الرَّحِمُ: رشتہ داری نے تیرے لئے ہمدردی اور شفقت کو بیدار کیا۔ ھُمْ اَھلُ اَطِیط وصھیل: وہ اونٹوں اور گھوڑوں والے ہیں۔

○ اَطِیط: اونٹ کی کراہنے کی آواز۔

○ اطر: اَطَرَ ـِ اَطْرًا و اَطَرَۃً: کو موڑنا، خم دینا، دوہرا کرنا۔ اِنّاطَرَ: مڑ جانا، خم کھانا، دوہرا ہونا۔ تَأَطَّرَ: مڑ جانا، خم کھانا، دوہرا ہو جانا۔ الاُطُر: کمان کا خم۔ الاِطار جمع اُطُر: گھیرا، چوکھٹا، جو چیز کسی شے کو گھیرے۔ جیسے دف اور چھلنی وغیرہ کے چوکھٹے۔ فریم۔ الاُطْرَۃ: ناخن کے گرد کا گوشت۔ الاطیر: گناہ اَخَذَہُ بِاَطِیر غیرِہ: اس نے اسے کسی دوسرے کے گناہ پر پکڑا۔

○ اَطَرَ ـِ اَطْرًا و اَطَّرَ ہ: کو موڑنا، خم دینا، دوہرا کرنا۔ اِطَار جمع اِطَارات و اُطُر: فریم (جیسے عینک کا چوکھٹا، ٹائر (پہیے کا) حلقہ، کڑا (جیسے پیپے کا بندوق وغیرہ کی نالی کا) جسم، ڈھانچہ۔

اِطارۃ: کنارہ، گھیرا، اگر، پہیے کا بیرونی حلقہ، رم (Rim)، اِطَارِی: فریم جیسا، کڑے جیسی شکل والا۔

○ اُطْرُغُلّۃ: کبوتر کی ایک قسم۔

○ اَطْرُون ـ نَطْرُون: (نیٹرون) خصوصاً مصر کی ملکی پیداوار جو قاہرہ کے شمال مغرب میں واقع وادی نطرون کی نمک کی جھیلوں سے نکالی جاتی ہے۔

اطل: الاِطْل و الاِطِل جمع آطال و اَیْطَل جمع اَیاطِل پہلو۔

○ الاَطْلَانْتِیك و الاَطْلَنْطِیق: بحر اوقیانوس اَطْلَانْطِقی و اَطْلَانْتِی: بحر اوقیانوس کے متعلق۔

اَطْلَس: ساٹن: (کپڑے کی ایک قسم) جمع اَطالِس اٹلس (Atlas) نقشہ نامہ، خریطہ، جغرافیائی نقشوں کی کتاب۔ اطلسی: بحر اوقیانوس کا۔ اَطْلَنْطِي: بحر اوقیانوس کا۔ الحلف الاطلنطی: معاہدۂ بحر اوقیانوس۔

اطم: ا۔ اَطَمَ الآطام: قلعوں کو بلند کرنا۔ تَاَطَّمَ السَّیلُ: سیلاب کی موجوں کا بلند ہونا۔ ـ علیہ: سے برا ابنا، پر غضبناک ہونا۔ الاُطُم جمع آطام: پتھروں سے بنا ہوا قصر (محل) یا قلعہ، مربع اور مسطح مکان، بلند عمارت، دفاعی قلعہ۔

۲۔ تَاَطَّمَتِ النارُ: آگ کے شعلوں کا بلند ہونا۔ الاَطِیمَۃ جمع اَطائِم: چولھا۔

۳۔ الاَطُوم جمع اُطُم و آطِمۃ (ح): ایک آبی جانور جس کا پچھلا حصہ مچھلی کے مشابہ ہوتا ہے، دو ہاتھ مگر بے پاؤں لمبائی کوئی ۸ قدم۔ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اسے بقر البحر (سمندری گائے) بھی کہا جاتا ہے۔ سمندری کچھوا۔

○ اُطُوم: بحری سنگ پشت، سمندری کچھوا۔

○ آغا جمع اَغوات: آقا، مالک، جناب، ہیجڑا، زنخا، مخنث، خواجہ سرا۔

○ الاَغْرِیق و الاَغَارِقۃ: یونانی، یونان کے باشندے اِغرِیقی: یونانی، یونانی باشندہ، یونانی زبان (کے متعلق) (اسم وصفت)

○ اَغُسْطُس: اگست (مہینہ کا نام)۔

اف: اَفّ ـُ اَفًّا و تَاَفَّفَ و اَفَّفَ: کرب و بے قراری میں اف اف کہنا۔ الاَفَف: بے قراری، بے چینی، وقت۔ الاُفّ: ناخن کے کٹے ہوئے ٹکڑے۔ کان کا میل۔ اُفٍّ: اسم فعل بمعنی میں بے قرار ہوں، مجھے یہ بات ناپسند ہے۔ کہا جاتا ہے: اُفّ لہُ و علیہ: اس پر افسوس، صد افسوس، ہے ہے، شرم، شرم الاَفّاف: بہت اف اف کرنے والا۔

تَاَفَّفَ من: کے بارے میں شکایت کے طور پر بڑ بڑانا۔ اُفّ: کانوں میں یا ناخنوں کے نیچے) میل۔ کان کا میل، اُفّ لا (غصہ یا ناراضگی کے اظہار کے طور پر) اف اف، ہے ہے، افسوس، صد افسوس تَاَفُّف: ناراضگی، بڑ بڑ، بڑ بڑ کرنا

افخ: ا۔ اَفَخَہُ: کے تالو پر مارنا۔ الیَافُوخ جمع یَآفِیخ: بچے کے سر کا وہ نرم حصہ جو حرکت میں رہتا ہے۔ تالو۔

۲۔ الاَفخارستیا: عیسائیوں کی مقدس قربانی کی ایک رسم۔

افد: ا۔ اَفِدَ ـَ اَفَدًا: جلدی کرنا، صفت آفِد۔ ـ و اِستَأفَدَ التَرحُّلُ: کوچ قریب آنا۔

۲۔ الاَفُود: ایک قسم کا لباس جو بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء پہنا کرتے تھے۔ الافرنج والافرنجۃ و الفرنج: یورپین (ترکوں اور رومیوں کے سوا)، یورپ کے لوگ، باشندے۔

○ اِفْرَنْجِی: یورپ کا باشندہ۔

○ اِفْرَنْسِی: فرانسیسی، الاِفرنسیۃ: فرانسیسی زبان۔ الافرنسیون: فرانسیسی (باشندے) اَفْرِیز جمع اَفارِیز: آرائشی پٹی، کگری، کنارہ، حاشیہ، حلقہ، کنارہ فٹ پاتھ، پٹری، افریز المَحَطّۃ (ریلوے اسٹیشن کا) پلیٹ فارم۔ افریز الحائط: کارنس کا آرائشی حاشیہ۔

○ اَفْرِیقَا و اِفرِیقِیا: (براعظم) افریقہ۔ افریقیا الشمالیہ: شمالی افریقہ۔ اِفرِیقی (اَفریقی): ایک افریقی (باشندہ)

○ آفَرِین: شاباش، مرحبا۔

افز: اَفَزَ ـِ اَفْزًا: کودنا، اچھلنا۔

افسن: الاَفْسَنْتِین (ن): ایک قسم کی کڑوی نباتاتی دوا۔

○ اِفْسَنْتِین و اِفْسِنْتِین: افسنتین (ایک قسم کی تلخ بوٹی)

اِفْشِین جمع اَفاشِین: دعائے مغفرت وہ دعائیں جو پادری پڑھتا ہے اور حاضرین اس کا ساتھ دیتے ہیں۔

○ الاَفْغان: افغان، افغانستانی (باشندے) اَفْغَانِستان: ملک کا نام، افغانی، افغانی (صفت واسم)

افق: ا۔ اَفِقَ ـِ اَفَقًا: آفاق میں جانا۔

اَفِقَ ـَ اَفَقًا: سخاوت یا علم میں انتہا تک پہنچنا۔ صفت: آفِق و اَفِیق۔ اُفُقُ الطریق: راستہ کا درمیانی حصہ۔ الاُفْق الاُفُق جمع آفاق: کنارہ (ہم کہتے ہیں: ھو جوّابُ آفاق: وہ بہت سفر کرنے والا ہے)۔ ہواؤں کے چلنے کی جگہ (فلک): کنارۂ آسمان جو زمین سے لگا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شاقول کی ڈوری پر مستقیم سطح۔ اُفُقِی: افق کا، افق کے متعلق، افقی۔ الخط الافقی: جس پر عمودی خط پڑے۔ الاَفّاق: کمانے کے لئے سفر کرنے والا۔

۲۔ اَفَقَ ـِ اَفْقًا الجلدَ: چمڑے کو رنگنا صفت مفعول: افیق جمع اَفِقَۃ و اُفُق (یعنی رنگا ہوا چمڑا)۔ الاَفِیقَۃ: رنگا ہوا چمڑہ۔

أُفْق و أُفُق : آفاق. افق: خط جس پر زمین (یا سمندر) اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ تصور کا دائرہ یا میدان (جمع): دور افتادہ ممالک، زمینیں، دور افتادہ علاقے، صوبے، ملک کے اندرونی حصے آفاقُ الأرض: زمین کے انتہائی دور کے حصے آفاقُ البلاد: ملک کے دور افتادہ حصے ذاذ الآفاق: اجنبی، مسافر لوگ أُفُقی: افقی آفاقی: دور کے ملک یا علاقہ سے آنے والا آفّاق: ادھر ادھر پھرنے والا، مارا مارا پھرنے والا، گھومنے والا، سیر کرنے والا، آوارہ گرد، بے گھر، بے در۔

افك: أَفِكَ ـ أَفْكًا و أَفَكَ ـ أَفْكًا و أُفُوكًا: جھوٹ بولنا۔ صفت أَفِك: أَفَّاكٌ و أَفُوك و أَفَّاك: جمع أُفَكاء۔ أَفَكَ: جھوٹ بولا۔ الإِفْك والأَفِيكة و الأَفيكة، جمع أفائك: جھوٹ۔ حديثُ الإفك: بے اصل بات۔

۲ أَفَكَ ـ افكَهُ عن رايه: کو اپنی رائے سے پھیرنا، کی رائے کو الٹ دینا۔ أَفَكَ البلدَ باهله: شہر کا بسنے والوں سمیت الٹ جانا۔ المُؤتفِكات: مختلف سمت چلنے والی ہوائیں۔ وحشتناک اور تباہ کن ہوائیں (عرب کہتے ہیں: اذا كثرتِ المؤتفكات زكت الارض: جب مختلف سمتوں پر چلنے والی ہواؤں کی کثرت ہو جاتی ہے، تو زمین خوشگوار ہو جاتی ہے) وہ بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے مع ان کے بسنے والوں کے الٹ دیا جیسے صدوم وعمورۃ۔

۳ أُفِكَ ـ المكانُ: جگہ کا بے بارش ہونا۔ أُفِكَت الأرض: زمین کا خشک سالی سے جل جانا۔ الأَفِكة: جمع أَفِكات من السنين: خشک سال۔ الأَفِيك والمأفُوك: خیر و بھلائی سے محروم۔

۴ أُفِكَ ـ الرجلُ: ضعیف العقل ہونا۔ الأَفِيك و المأفُوك: کمزور رائے والا۔

أَفُوكاتو (ن): ایک پھل دار درخت کا نام۔

افل: أَفَلَ ـُ و أَفِلَ ـَ أُفُولًا القمر: چاند کا غروب ہونا۔ صفت آفِل: جمع أُفَّل و أُفُول۔ کہا جاتا ہے: فلان كعبه سافِلٌ و نجمه آفِل: وہ شخص پھوٹی قسمت والا ہے۔ أَفَلَ ـُ أُفُولًا و أَفِلَ ـَ أَفَلًا الرجلُ: خوش و شادماں ہونا۔ أَفِلَت المُرْضِعُ: دودھ پلانے والی کا دودھ ختم ہو جانا۔ الأَفْل: تکبر کرنا۔ الأَفِيل: جمع الأَفال و افائل: مؤنث أفيلة: اونٹ کا بچہ۔

أَفَلَ ـُ أُفُولًا: (ستاروں کا) غروب ہونا، نیچے چلا جانا۔ الأُفُول: ستاروں کا غروب ہونا۔ الآفِل: ناپائدار، آنی جانی، عارضی، دم بھر کا، سرسری، چشم زدن میں۔

أَفْلاطُون: افلاطون (ایک فلسفی کا نام)

أَفِنَ ـَ أَفَنًا و أَفِنَ: کمزور رائے والا ہونا۔ صفت أَفِين و مأفُون۔ أَفِنَ ـ أفَنًا اللهُ فلانًا: اللہ کا کسی کو ضعیف العقل بنا دینا۔ الناقةَ: اونٹنی کو بے وقت دوہنا۔ أَفَّنَ: بتکلف کسی عادت کو اختیار کرنا۔ الشيءُ: کم ہونا، ناقص ہونا۔ او اخرَ الامور: نتائج پر نگاہ رکھنا۔ الإفّان: وقت، کہا جاتا ہے: جاءَ في إفّانِ ذلك: وہ اس کے دوران آیا۔

الأَفْيُون (ن): افیم۔

افن: يوتو أَفَن و مأفون: بے وقوف، احمق، گاؤدی۔

أَفَنْدِي: أَفَنْدِيَة: غیر یورپین مردوں کو جنہوں نے مغربی لباس کے ساتھ طربوش پہن رکھی ہو کو افندی کہا جاتا ہے بمعنی شریف آدمی۔ احترام کا خطاب بھی ہے جو نام کے بعد لکھا اور بولا جاتا ہے۔ جیسے جلال آفندی۔ أفندم: سر، جناب، میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے کیا فرمایا؟

أَفُوكاتو: وکیل، قانون دان۔ الأفوكاتو العمومي: اٹارنی جنرل۔

روح الأفيون: شراب میں حل کی ہوئی افیم۔

الأُقَّة: جمع أُقَق: نصف رطل۔

۲ الأَقاقيا (ن): گرم ممالک خصوصاً آسٹریلیا میں پایا جانے والا خوشبودار درخت، پھول غالباً پیلے ہوتے ہیں۔ اسے الشوكة المصرية بھی کہا جاتا ہے۔

اقح: أَقاحِيُّ الأمر: کسی امر کا آغاز۔

۲ الأُقْحُوان والقُحْوان: أقاحي و أقاح: واحد أُقْحُوانة و قُحْوانة (ن): بابونہ۔ أُقْحُوانُ الحَدائِق: ایک قسم کی گھاس جس کی کثرت پودوں کے لئے سخت سنز سمجھی جاتی ہے۔

أُقْحُوان: أَقاحي: گل بہاری، ڈیزی (Daisy)

أَقْرَباذِين: مرکب ادویہ۔ الأقرباذين: فن دوا سازی، علم عطاری۔ أقرباذيني: دوا سازی یا عطاری کا یا کے متعلق۔

اقص: الأُقْصُلِيص (ن): کچی سبزی، گھاس یا ساگ، احصاض بھی کہتے ہیں۔

اقط: الأَقِط و الإِقْط و الأَقْط و الأَقِط و الأُقْط، جمع الأُقْط والإِقْط: پنیر۔ الأقطة: پنیر کا ٹکڑا۔

أَقْلَمَ: جانور، درخت یا انسان کو نئی آب و ہوا کا راس آنا، اپنے آپ کو (تقاضوں کے) مطابق بنانا، ہم آہنگ بنانا۔ تأَقْلَمَ: کسی کو آب و ہوا راس آنا (مجاز) خوگر ہونا، عادی ہونا۔ إقليم

موسم، آب و ہوا، علاقہ، خطہ، صوبہ، ضلع، انتظامی ضلع، بمعنی مدیریہ، ملک، صوبہ۔ إِقْليمي: موسمی، موسم کا علاقائی، مقامی، بلدیاتی، قلمرو کا، ممالک محروسہ کا، وطنی۔ والمياهُ الاقليمية: علاقائی سمندر۔

إِقْليد: جمع أَقاليد: کنجی، چابی، کلید۔ إِقْليدس: حکیم اقلیدس، اس کی تصنیف علم اقليدس: علم ہندسہ۔

اقنث: الأَقْنِثا و الأَقَنْثُوس (ن): ایک خوبصورت پتوں والا پودا، بحر متوسط کے ساحلوں پر بہت پایا جاتا ہے۔

أُقْنُوم: أَقانيم: ذات، جوہر، تثلیث کے اندر مقدس شخص، تشکیلی عنصر۔

إِقُونة: بت، مورتی، شبیہ، مجسمہ، بزرگوں کی تصویر جو دیواروں پر بنائی جائے (مسیحیت)

أُقْيانُوسِيّة: سمندری۔

أَكّادِي: اکادی (Akkdian)

أَكادِيمِيّة: اکادمی، اکیڈمی، کسی فن کی بڑی درس گاہ، تربیت گاہ، اعلیٰ فنی یا علمی تعلیم گاہ (Academy)۔

اكت: الاكتينيوم (ك): حرارت یا نور افشاں غیر پیچیدہ مادہ۔

أكتوبر: اکتوبر (مہینہ کا نام)

اكد: أَكَّدَ و وَكَّدَ ـ العَهْدَ او السرجَ: عہد یا زین کو مضبوط کرنا، مضبوط باندھنا۔ تأَكَّدَ و توَكَّدَ: مضبوط ہونا، سخت ہونا۔ الأَكِيد: مضبوط، مُحْكَم، ثابت۔ الأَكائِد و التآكِيد: وہ تسمے جن سے زین کے آگے کے حصہ کو باندھتے ہیں۔ ایک کو اكاد کہتے ہیں۔

۲ أَكَّدَ و وَكَّدَ الشيءَ: کو ثابت کرنا، جمانا، قائم کرنا، نصب کرنا۔ تأَكَّدَ و توَكَّدَ: قائم ہونا، جمنا، فیصلہ ہونا۔ الأكيد: ثابت، پختہ۔

۳ الأَكِيدِنيا (ن): درخت جس کے پھل خوشوں کی شکل میں لگتے ہیں۔ ذائقہ میں لذیذ، یہ گرم علاقوں اور بحر متوسط کے ساحلوں پر بویا جاتا ہے۔

أَكَّدَ ه: سے کوئی بات وثوق سے کہنا، کو کا یقین دلانا، کو کوئی یقین دہانی کرانا۔ أنّ: کو کوئی بات وثوق سے کہنا کہ، کو یقین دلانا کہ ـ ه: (رائے وغیرہ کی) توثیق کرنا، تصدیق کرنا، کو مستحکم کرنا، پکا کرنا۔ تأكَّدَ من: کا قائل ہونا، یا ہو جانا، کا یقین کرنا، یا کر لینا، کا یقین کرنا۔ فوری ہونا، تعمیل طلب ہونا، اشد ضروری ہونا، مطلوبہ (شے) ہونا۔ تأكيد جمع تأكيدات: یقین دہانی۔ یقین، اعتبار، طمانیت، بھروسا، منظوری، تاکید، تصدیق، استحکام، تاکید، زور، بالتاكيد: قابل اطمینان طور پر، بلاشبہ، بالیقین۔

بالضرور، لازماً، یقیناً، بے شک۔ التأکد طمانیت،
یقین، اعتبار، اندیشے دور کرنا۔ أکید تیقّن، صحیح، پر
یقین، یقین رکھنے والا، پختہ (ارادہ وغیرہ) واضح
(خواہش) فوری، اشد ضروری (حاجت) اکیداً
یقیناً، قطعاً، بے شک، لازماً، امید کامل ہے کہ ......
مُؤَکَّد پکا، یقینی، حتمی، پر یقین، صحیح، معین، غیر مبہم،
واضح، مستحکم، پختہ، تغیر ناپذیر، مُتأکِّد متیقن قائل، کا
یقین رکھنے والا۔

اکر: اکَرَ ۔ُ أکْرًا و تأکَّرَ الارض زمین کو پھاڑنا
اور اس میں کاشت کرنا۔ الأکّار کسان۔ أکَرة و
أکّارون کاشتکار الأکرة گڑھا، گیند۔
الإکارات (عند الفقھاء) کاشت کے لئے دی
جانے والی زمین۔

۲۔ الأکار ایک آلہ طرب۔

۳۔ الأکور دہل ایک آلہ طرب۔

○ اکَرَ ۔ِ أکْرًا (ہ زمین) پر ہل چلانا، کاشت کرنا۔
فصل اگانا یا پیدا کرنا۔ الأکّار اکّارون و اکرة
کاشت کار۔ اُکَر جمع اُکْرة (کھیلنے کی) گیند۔

اِکْزِیما کھجلی، خارش، اگزیما (eczema)

اکس: آشعة إکس ایکس رے۔

اکلیل: أکاسیا یا رُوبینیا ایک درخت جس
کی شاخیں خاردار ہوتی ہیں، پھول خوشبودار، سفید یا
گلابی رنگ کے۔ یہ درخت امریکی الاصل ہے۔

۲۔ الأکسَدَة: (لغ) کا آکسیجن سے ملاپ کی قسم کا، ایک
لوہے کو زنگ لگنا اور دوسرا مادوں کا جلنا۔ الأکسید
(لغ) آکسائیڈ۔ اکسید (Oxide) آکسیجن کا
دوسرے عنصر کے ساتھ ایک کیمیاوی مرکب۔
المُؤکْسَد (لغ) مادہ جس کو آکسیجن نے ترک کر
دیا ہو۔

۳۔ الأکْسَر خول ایک کلیسائی رتبہ۔

۴۔ الأکسجین آکسیجن: بے رنگ اور بے ذائقہ گیس
جو سانس لینے اور چیزوں کے جلنے کے لئے ضروری
ہے (Oxygen)

○ أکْسَدَ آکسیجن ہونا، آکسیجن کے ساتھ مرکب بنانا،
زنگ آلود ہونا۔ تأکْسَدَ آکسیجن سے مرکب ہونا،
زنگ آلود ہونا۔ اکسجین اکاسید آکسائڈ
(Oxide)

○ اکسفورد آکسفورڈ Oxford

○ اکسجین آکسیجن Oxygen

○ إکسیر اکسیر (elixir)

اکف: أکَفَ و آکَفَ إیکافًا الحمار گدھے پر
پالان کسنا۔ ۔۔ الأکاف پالان بنانا۔ الأکّاف
اُکُف و آکِفَة پالان۔ الأکّاف پالان بنانے
والا، پالان بیچنے والا۔

اکل: أکَلَ ۔ُ أکْلًا و مَأکَلًا الطعام کھانا کھانا۔
أکَّلَ و آکَلَ ایکالًا فلانًا الشیء کسی کو کوئی چیز
کھلانا۔ آکَلَہ مُؤاکلۃ کے ساتھ کھانا، کو کھلانا۔
اِئتَکَلَ بعض کا بعض کو کھانا۔ ۔۔ت النار آگ کا
سخت بھڑک اٹھنا۔ ۔۔من الغضب غصہ سے جل
اٹھنا۔ اِستأکَلَہُ الشیء کھانا تیار کرنے کے لئے
کہنا۔ فلانٌ یستأکل الضعفاء فلاں شخص ضعیفوں
کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ الأکْل و الأکُل
کھانے کی چیز، خوراک، کشادہ روزی۔ الأکْلَة
غیبت۔ أکِل النمل (لغ) ایک چیونٹی خور جانور
الأکِلَة عضو کو کھانے والی بیماری۔ الأکّال
و الأکِیل و الأکُول و الأکَلَة بہت کھانے والا
پیٹو۔ المأکَل ماکول خوراک۔ المأکَلة
چیز کھائی جائے۔ خوراک المُکْلَة چھوٹا پیالہ۔
المآکل جمع مأکل المآکل مآکیل
خوراک۔ الماکول و المشروب کھانے اور
پینے کی چیز۔ شئی خورد و نوش۔

۲۔ أکَلَ ۔ُ أکْلًا و مَأکلًا النجم کو فنا کرنا۔ ہم کہتے
ہیں: أکَلَ فلانٌ عمرَہ فلاں شخص نے اپنی عمر فنا کر
دی۔ أکِلَ ۔َ أکَلًا و تأکَّلَ السنُّ او العود
دانت یا لکڑی کا کھوکھلا ہو کر گر پڑنا۔

۳۔ أکِلَہُ ۔َ إکْلًا و أکْلًا و أکالًا راس کھجلانا۔

○ اکَلَ ۔ُ أکْلًا و مأکلًا کھانا، تباہ کرنا، کو جلدی
جلدی کھانا، ہڑپ کرنا، نگلنا، بے تحاشا کھانا، کو بھسم کر
دینا، کھا جانا، تلف کرنا، کاٹنا، کترنا، گھن کی طرح کھا
جانا، گھس دینا، گھس اگانا، کاٹ ڈالنا، کو ناجائز طور پر
خرچ کرنا، سے اپنے آپ کو مالدار بنانا۔ سے اپنا گھر
بھرنا، اکل علیہ الدھر و شرب بوڑھا ہونا اور
تھک جانا، پرانا ہونا، دقیانوسی ہونا۔ اکل الربا:
بھاری سود لینا۔ یعلم من این تُؤکل الکتف وہ
جانتا ہے کہ معاملہ کس طرح مناسب طور پر سلجھائے۔
اکلہ جلدہ اس کی جلد میں کھجلی ہوئی۔ اکل فی
صحن ایک پلیٹ کھا گیا۔ اکل حقہ حقوق
پر غاصبانہ قبضہ کرنا أکّلَ و آکَلَ ہ کو کچھ کھانے
کو دینا، کو کچھ کھلانا۔ آکَلَہ کے ساتھ کھانا کھانا۔
تأکَّلَ کھایا جانا، تلف ہونا، ہضم ہونا، برتا جانا، کھایا
جانا، ختم ہونا، گھس جانا، گل جانا، گھل جانا، پرانا ہونا،
دقیانوسی ہونا، درزوں یا شگافوں والا ہونا، گھل اور گل کر
ختم ہو جانا۔ أکْل خوراک، کھانا، چارہ، بھوسہ، گھاس،
دانہ، دودھ، راتب، ہری بھری کھیتی۔ غرفة الأکل
کھانے کا کمرہ، اکل البحر سمندر برد زمین۔
أکُل و أکْل خوراک، پھل، اتی أکلہ بار
ہونا۔ الأکل جمع آکال خوراک، کھانا۔ أکلة
لقمہ، نوالہ۔ أکال کھجلی، خارش، اکّال و اکیل
و اکول بسیار خور، کھاؤ، ندیدہ، پیٹ بھر کر کھانے
والا، خوش خوراک، مأکل مأکل مأکلة خوراک،
اشیائے خوردنی۔ تآکل استعمال سے پہنچنے والا
نقصان کھایا جانا۔ گھل جانا، گھس جانا، تحلیل، کٹاؤ۔
اِنتکال کٹاؤ، کٹ جانا، کھایا جانا۔ آکل کھانے
والا آکلة ہوا پھوڑا۔ ماکول خوردنی، کھائے
جانے کے قابل، کھانے کے قابل، جمع ماکولات:
خوراک، اشیائے خوراک، اشیائے خوردنی۔
مؤاکل ساتھ کھانے والا، دسترخوان کا ساتھی۔ متآکل
و متأکل کھایا ہوا، کاٹ ڈالا ہوا، کٹا ہوا، گھسا ہوا،
(تیزاب) خورد گھن زدہ، گلا ہوا، پرانا، دقیانوسی،
خراب، شگافوں اور درزوں سے پر، زنگ آلود، زنگ
خوردہ۔

إکلیرُوس تمام پادری، اہل کلیسا، إکلیرُوسیة:
پادریوں کا پیشہ، کلیسائیت۔ إکلیریکی زنانہ،
باباشاہی۔

إکلینیکی مطب کا، طبی۔

اکم: اِستأکم الموضع جگہ کا ٹیلہ بن جانا۔ الأکمة
جمع أکَم و أکَمات و جمع آکام و أکُم
و إکام۔

○ أکَمَة جمع أکَمات و إکام و أکُم و آکام (کا
اسم جنس) پہاڑی، چٹانوں کا سلسلہ، سمندر میں سطح
کے برابر اونچی چٹان، ڈھیر، وراء الأکمة ما وراء
مشکوک یا مشتبہ (چیز)، بات کچھ اور ہے۔

ال: حرف تعریف ا۔ عہد جیسے: اشتریت عبدا ثم
بعتُ العبدَ میں نے ایک غلام خریدا، پھر میں نے
اس غلام کو بیچ دیا۔ ۲۔ جنسی جیسے: خلق الانسانُ
ضعیفًا: انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ (۳) اسم
موصول جو اسم الفاعل اور اسم المفعول پر داخل ہوتا
ہے۔ جیسے: الحامل اٹھانے والا۔ المحمول:
اٹھایا ہوا۔

ال: ألَّ ۔ُ ألًّا الرجلَ ہی کرنا۔ کو نیزہ سے مارنا،
دھتکار دینا ۔۔۔ اللون رنگ کا صاف اور چمکیلا ہونا۔
ألَّ ۔ِ ألًّا و ألَلًا و ألیلًا المریض کا کراہنا۔ ۔
الرجل فی دعاءہ اپنی دعا میں گڑگڑانا۔ الِلت ۔

أَلَّا الاَسْنَانَ: دانتوں کا خراب ہوجانا۔ أَلَّ الشَّيءَ: کو نوکدار یا دھاریدار بنانا۔ الاِلّ: عہد، گڑگڑانا، عمدہ اصل، دشمنی، کینہ۔ الاَلَّة: برچھی، لڑائی کے ہتھیار۔ فرسٌ مِئَلٌّ: تیز رفتار گھوڑا۔

○ اِلّ: عہد، معاہدہ، عہد و پیمان، قول و قرار، خونی رشتہ، برادری، یگانگت، قرابت۔

○ اَلَّا = اَنْ لَا: ایسا نہ ہو کہ، مبادا، خدانخواستہ، اس خوف سے کہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو، تاکہ نہ۔

○ اِلَّا = اِنْ لَا: اگر نہ، جب تک نہ، کے سوا نے، کے سوا، (نفی کے بعد) لیکن، مگر سوائے، اس کے کہ۔ اِلَّا اَنَّ: مگر یہ کہ، تاہم، لیکن، مگر، پھر بھی، بایں ہمہ۔ اِلَّا اِذَا: اگر نہ، جب تک نہ، مگر جب۔ وَاِلَّا اور اگر نہ، ورنہ۔ اِلَّا وَهُوَ: جب تک وہ نہ، بجز اس کے کہ وہ۔ وَمَاهِيَ اِلَّا اَنْ: فوراً، اسی وقت، بلاتاخیر، بہت جلد۔ وَمَاهِيَ اِلَّا اَنْ حتی: جونہی کہ، جیسے ہی اس نے......تو فماهي الا ان هَمَّ حتى فَعَلَ: جونہی اس نے نیا منصوبہ بنایا، اس نے اس پر عمل کرڈالا۔

الا ۱۔ اَلَا: شروع کلام میں آکر یہ صرف اپنے مابعد کے مضمون پر زور دیتا ہے اور اس کے تحقق کو ثابت کرتا ہے جیسے: اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السفهاء: خبردار ہو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں (۲) صرف تنبیہ کے طور پر آتا ہے جیسے اَلَا یا صاحِ قُمْ: خبردار اے میرے ساتھی کھڑا ہو جا۔ (۳) حرف عرض: اَلَا تنزل بنا: کیا آپ ہمارے ہاں نہیں اتریں گے۔ (۴) حرف تحضیض: اَلَا تتوب و ترتدّ عن غیّك: خبردار، توبہ کر اور اپنی گمراہی سے باز آجا۔

۲۔ اَلَّا: حرف تحضیض جیسے اَلَّا تکرم ابویك: تو اپنے والدین کی عزت کیوں نہیں کرتا۔

۳۔ اِلَّا: حرف استثناء جیسے جاء القومُ اِلَّا زیدًا: زید کے علاوہ سب لوگ آئے۔ صفت کے لئے غیر کے معنی میں: جیسے لی رجالٌ الا رجالُك: میرے آدمی تیرے آدمیوں کے علاوہ ہیں۔ نفی کے بعد حرف حصر جیسے: ماضربَ الا زیدٌ: زید نے ہی مارا۔

اَلَاسکا الاسکا (ملک کا نام)

الَای و آلَای جمع الَیات: پلٹن، رجمنٹ (regiment)

الب ۱۔ اَلَبَ ـِ اَلْبًا: جمع کرنا۔ اَلَبَ ـُ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ اَلَّبَ: لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں میں فساد ڈالنا۔ (ضد) تَاَلَّبَ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الاِلْب: کسی ایک شخص کی عداوت پر جمع ہونے والی قوم (کہا جاتا ہے: هم علَی اِلْبٌ واحدٌ: وہ سب میری عداوت پر متحد و متفق ہیں)۔ انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیان کا فاصلہ۔

۲۔ الاَلْبَكَة (ح): جنوبی امریکا کا ایک جگالی کرنے والا جانور، اونی کپڑا جو اس جانور کے بالوں سے بنا گیا ہو۔

○ اَلَبَ ـِ اَلْبًا: اکٹھا ہونا، جمع ہونا، مل کر کام کرنا تاکہ مشترکہ مقصد حاصل کیا جائے۔ اَلَّبَ ہ علی: کو کے خلاف اکسانا۔ تَاَلَّبَ علی: کے خلاف مجتمع ہونا، جتھا بنانا، سازش کرنا، ساز باز کرنا، گٹھ جوڑ کرنا۔ جبال الاَلْب: کوہ آلپس (Alps)۔ الاَلْبان: البانیا کے باشندے، اَلْبانیا: ایک ملک کا نام۔

اَلَتَ ـِ اَلْتًا الشيءُ: کم ہونا، تھوڑا ہونا۔ ـ الرجلَ حقَّهُ: کو اس کا حق کم دینا، کے حق میں کمی کرنا۔ ـ الرجلَ: کو اس کے ارادہ سے پھیرنا اور باز رکھنا۔ ـ ہ یمینًا: کو قسم دلانا۔ اپنے حق میں گواہی دینے کے لئے کہنا۔ آلَتَ اِیلاتًا: بمعنی اَلَتَ۔ الاَلْتَة: تھوڑا عطیہ، جھوٹی قسم۔

○ الخ: اِلی آخِرِہ: کا مخفف بمعنی وغیرہ وغیرہ۔ وقِسْ عَلَی هذا۔

الذی: اَلَّذِی: اسم موصول، تشنیہ اللذان واللذینِ جمع اَلَّذِینَ والَّذُونَ۔ تصغیر: اللَّذَیّا واللذیان و اللذیّون مونث التی جمع اللواتی و اللاتِ و اللاءِ ی تشنیہ: اللتان و اللتین۔ تصغیر: اللتیّا و اللُّتَیّا: جو (شخص یا چیز) جس، جس نے، وہ جس نے، (کہا جاتا ہے: وقع فلان فی اللّتیا والتی: وہ چھوٹی بڑی مصیبتوں میں پھنس گیا)۔

○ انگریزی میں الذی الخ ان معنوں میں آتا ہے: he, who, that, which, who, that which.

بعد اللُتیّا و التی: لمبی چوڑی بحثوں کے بعد، بعد از خرابی بسیار، خدا خدا کرکے۔

الزاس: شمال مشرقی فرانس کا علاقہ۔

السّ ۱۔ اَلَسَ ـِ اَلْسًا ہ: سے خیانت کرنا، کو دھوکا دینا۔ آلَسَهُ مُؤَالَسَةً: سے غداری کرنا، خیانت کرنا، کہا جاتا ہے: هو لایُدالس ولا یُؤالس: وہ نہ تو دھوکا دیتا ہے نہ خیانت کرتا ہے۔ الاَلْس: خیانت۔

۲۔ اُلِسَ: دیوانہ ہونا۔ صفت: مَألُوس، الاَلْس: جنون، دیوانگی۔

○ اَلَّسَ علی: کی تحقیر کرنا، بے وقعتی کرنا، کو بدنام کرنا، حقیر سمجھنا، کا حقارت سے ذکر کرنا، کو گھٹا کر دکھانا۔

الف: اَلِفَ ـَ اَلْفًا: سے مانوس ہونا، محبت کرنا۔ ـ المکانَ: کسی جگہ سے مانوس ہونا۔ آلَفَ اِلافًا و مؤالفةً ہ: کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سے دوستی کا برتاؤ کرنا۔ ـ ایلافًا المکان: کسی جگہ کا عادی ہونا، کسی جگہ سے مانوس ہونا۔ ـ ہُ المکانَ: کو کسی جگہ سے مانوس کرنا۔ اَلَّفَ بینهم: لوگوں میں الفت و محبت پیدا کرنا۔ تَاَلَّفَهُ: سے بناوٹی دوستی رکھنا، سے اوپری دل سے محبت کرنا۔ اِسْتَاْلَفَ: دوست و ساتھی تلاش کرنا۔ الاِلْف جمع آلاف و الِیف جمع الاَلَائِف و آلِف جمع الاُلّاف: دوست، مونس۔ اَوالِفُ الطیر: گھر میں رہنے والے پرندے۔ الاِلْف و الاُلْفَة: دوستی، انس و محبت۔ الاِیْلاف: عہد، پروانہ راہداری۔ المَأْلَف جمع مآلِف: جس سے لوگ الفت و محبت رکھیں۔ لوگوں کی مرغوب شئے۔ الاَلُوف جمع اُلُف: بہت محبت کرنے والا۔ صدیقٌ اَلُوفٌ: گہرا دوست، جگری دوست۔

۲۔ اَلَّفَ الشيءَ: بعض کو بعض سے ملانا۔ ـ الکتابَ: مسائل کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا۔ تَاَلَّفَ الشيءُ: چیز کا نظم و ترتیب میں ہونا۔ تَاَلَّفُوا: جمع ہونا، اکٹھے ہونا۔ اِئْتَلَفُوا و تَآلَفُوا: جمع ہونا، اکٹھے ہونا۔ التألیف و المُؤَلَّف: کتاب (جس میں کسی علم کے مسائل جمع کئے گئے ہوں)۔ المُؤَلِّف: کتاب کا مصنف۔

۳۔ اَلَفَ ـُ اَلْفًا ہ: کو ایک ہزار دینا۔ اَلَفَهُمْ: کو ہزار بنانا۔ آلَفُوا: ایک ہزار ہونا۔ اَلَّفَ الاَلْفَ: پورے ہزار کرنا۔ الاَلْف جمع اُلُوف و آلاف: ہزار (1000)

۴۔ الاَلِف: حروف تہجی کا پہلا حرف: ا (الف) کتابُ الالف بـاء: کتاب جس میں عربی کے حروف تہجی پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک الالف و الیاء: اول و آخر (ہر چیز کا)۔ هذا الامر هو الالف و الباء: یہ معاملہ سب کچھ ہے۔ الاَلِفِیَّة: الف سے منسوب۔ اصطلاحاً عربی علوم میں سے کسی علم کے قواعد جو شعروں میں بیان کئے گئے ہوں۔ مطلق الفیہ سے مراد الفیہ بن مالک ہے، جو علم نحو میں منظوم کتاب ہے۔

○ اَلْف جمع اُلُوف و آلاف: ہزار، ہزار سال، ہزار سالہ مدت۔ اُلُوفٌ مُؤَلَّفَةٌ آلافٌ مُؤَلَّفَةٌ: ہزاروں اور ہزاروں۔ عَشَراتُ الاُلُوف: دسیوں ہزار۔ مِئاتُ الاُلُوف: سینکڑوں ہزار۔ عیدٌ اَلْفِی: ہزار سالہ تقریب۔ اِلِف: حروف تہجی کا پہلا حرف الف۔ من الِفِهِ اِلی یائِهِ: شروع سے آخر تک۔ الف سے ے تک A سے Z تک۔ یعرف الفَهُ و باءَهُ: وہ اسے الف سے یے تک جانتا ہے۔ الف باء الف بے، الفباء ابجد ABC۔ اَلِفَ ـَ اَلَفًا: سے واقف ہونا، شناسا ہونا، بے تکلف ہونا، کا ماہر ہونا، خوب واقف ہونا۔ ـ ہ: سے گہرے تعلقات ہونا۔ ـ ھکذا

عادی ہونا یا ہو جانا، خوگر ہونا یا ہو جانا، کو پسند کرنا، کا شائق ہونا، ـــ پالتو ہونا۔ اَلَّفَ ہ: کو کا عادی بنانا، خوگر بنانا۔ ـــ جانور کو پالتو بنانا، سدھانا، (کمیٹی یا حکومت) تشکیل دینا۔ ـــ بین کو متحد کرنا، ملانا، اکٹھا کرنا، (کتاب) مرتب کرنا۔ تالیف کرنا، مدوّن کرنا، ترتیب دینا، لکھنا۔ تَاَلَّفَ من پر مشتمل ہونا۔ ـــ متحد ہونا، یکجا ہونا، ملنا۔ تَــآلَفَ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونا، سر ملے ہوئے ہونا، میل کھانا۔ ـــ مع: سے ہم آہنگ ہونا۔ اِئتَلَفَ متحد ہونا، مربوط ہونا، جڑا ہوا ہونا۔ ـــ ب کے ساتھ جگری تعلقات ہونا، بے تکلف ہونا۔ ـــ گٹھ جوڑ، اتحاد یا اشتراک بنانا۔ ـــ کے لئے، موزوں ہونا، سے ہم آہنگ ہونا۔ ـــ مع: باترتیب ہونا، صاف ستھرا یا سلیقے کا ہونا۔ اِستَألَفَ ہ: سے گہری دوستی کا خواہاں ہونا، کی دوستی کا خواستگار ہونا۔ اِلْف جمع الآف گہرا، جگری، قریبی دوست، راز دار، ہمراز، محرم، عاشق۔ اُلْـفَة واقفیت، آشنائی، بے تکلفی، گہری دوستی، دوستانہ، دوستی، محبت، چاہ، لگن، پیار، اتحاد، اتفاق، ہم آہنگی، موافقت، اَلِیف جانا بوجھا، واقف آشنا، شناسا، گہرا، جگری، قریبی، پالتو یا سدھایا ہوا (جانور)، دوستانہ، پرامن، ملنسار، خوش مزاج جمع اَلائِف: قریبی، جگری، گہرا دوست، ساجھی، شریک ہم صحبت یا ساتھی، اُلُــوف واقف، شناسا، آشنا، جگری، قریبی، پالتو یا سدھایا ہوا (جانور): وابستہ، لگاؤ رکھنے والا، جانثار، وفادار، وفاشعار، وقف وفا۔ تَالِیف (حکومت کی) تشکیل، (مختلف چیزوں) کا اتصال، اتحاد، اتفاق، دھڑا، ایکا، ادبی تصنیف، (کتاب کا) لکھنا، تدوین، ترتیب۔ (مضمون کا) لکھنا۔ جمع تَآلِیف و تَوالِیف کام، کتاب، (شائع شدہ) کتاب وغیرہ۔ اِئتِلافی گٹھ جوڑ، اتحاد یا اشتراک کا۔ وزارةٌ اِئتلافیة گٹھ جوڑ والی کابینہ۔ مَألُوف: جانا بوجھا، جانا پہچانا، عادی، عام، معمول کے مطابق، حسب عادت، ٹھیک، حسب معمول، رواجی، رواج، رسم، دستور، طریق استعمال، محاورہ۔ مُؤَلِّف مصنف، لکھنے والا۔ مُؤَلَّف من پر مشتمل۔ ـــ لکھا ہوا، مُدَوَّن، مُرَتَّب جمع مُؤَلَّفات: کتاب، شائع شدہ کتاب۔ مُتَآلِف: ہم آہنگ، مطابق۔

الق ۱۔ اَلَقَ ـِ اَلْقًا و تَأَلَّقَ و اِئتَلَقَ البرق بجلی کا چمکنا، بجلی کا کوندنا۔ تَأَلَّقَتِ المرأةُ عورت کا بننا، سنورنا، سنگھار کرنا، تَــأَلُّق (ف) دمک، تمتماہٹ، سرخی، تابانی، تابندگی، درخشانی، درخشندگی، الإلاق بغیر بارش کے بجلی۔

۲۔ اَلَقَ ـَ اَلْقًا الرجلُ: جھوٹ بولنا۔ الإلْق جمع اِلَق: بدخلق، بھیڑیا۔

۳۔ اُلِقَ اَلْقًا: دیوانہ ہونا، مجنون ہونا، صفت مَـألُـوق و مَألوق۔ الأَوْلَق جنون، پاگل پن۔

○ اَلَقَ ـِ اَلْقًا: چمکنا، روشن ہونا، شعاعیں نکالنا، شعلہ فشاں ہونا، بھڑک اٹھنا، دمکنا۔ اَلْــق چمک، دمک، آب و تاب۔ تَـأَلَّقَ و اِئتَلَقَ: بمعنی اَلَقَ۔ الآلِق: چمکیلا، چمکدار، درخشاں، تابندہ، روشن، تاباں، مُنَوَّر، شعلہ فشاں، تَـأَلُّق آب و تاب، تابانی، تابندگی، درخشانی، درخشندگی، دمک، تمتماہٹ، سرخی، مُتَــأَلِّق: چمکیلا، چمکدار، تابندہ، درخشاں، روشن، منور، تاباں۔

الك ۱۔ اَلَكَ ـِ اَلْكًا و اَلُوكَةً و اَلُوكًا و مَألَكًا و آلَكَ إلاكَةً پیغام پہنچانا۔ إستَألَكَ اَلُوكَتَهُ کا خط یا پیغام لیجانا۔ المَـلَكُ و المَـلاكُ جمع مَلائِك و مَلائكة: مَلْأَك کا مخفف اصل میں مَألَك ہے بمعنی بھیجا ہوا۔ فرشتہ (روح بلا جسم) الأَلُـوك و الأَلُوكَة و المَألُك و المألُكَة جمع الآئِك و مَآلِك پیغام۔

۲۔ الإلَـكْتُـرون (ف): الیکٹرون، برقیہ، منفی، برقیہ (electron)۔

○ اِلِكْتَرونی: الکٹرون کا، الیکٹرون سے متعلق عقل الـكـتـرونـی: الیکٹرونی کمپیوٹر (electronic computer)

الم ۱۔ اَلِمَ ـَ اَلَمًا دکھی ہونا، درد والا ہونا صفت: اَلِم۔ اَلَّمَ تَألِيمًا ہُ: کو دکھ دینا، درد پہنچانا۔ آلَمَهُ اِیلامًا: کو دکھ دینا۔ درد پہنچانا۔ تَأَلَّمَ: دکھی ہونا، درد مند ہونا۔ الأَلِيم دردناک، دکھ دینے والا۔ تکلیف دینے والا۔

۲۔ الألماس (ك): ہیرا۔

۳۔ الألومينيوم (ك): المونیم Aluminium ایک سفید دھات۔

○ اَلِمَ ـَ اَلَمًا: تکلیف میں ہونا۔ تکلیف محسوس کرنا۔ ـ ب میں مبتلا ہونا، تکلیف وغیرہ محسوس کرنا۔ اَلَّمَ و آلَمَ ہ: کو تکلیف پہنچانا، تکلیف دینا، دکھ دینا، ایذا دینا۔ تَــأَلَّمَ: تکلیف میں ہونا، تکلیف محسوس کرنا۔ شکایت کرنا۔ اَلَــم جمع آلام: تکلیف، درد، دکھ، مصیبت، روحانی اذیت، آلامٌ نفسانیةٌ ذہنی اذیت، اسبوع الآلام ہفتہ مصائب (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اَلِيم دردناک۔ تکلیف دہ، اذیت ناک، سخت، المناک، پرملال، شدید، غم انگیز، دلخراش۔ تَــأَلُّم: تکلیف، درد، درد کا احساس۔ مُــؤْلِــم دردناک، تکلیف دہ، غم انگیز، المناک، سنجیدہ۔ مُتَأَلِّم تکلیف دہ، دردناک، تکلیف میں مبتلا، مصیبت میں (مبتلا)۔ سخت دکھ و تکلیف میں۔ سخت کوفت زدہ، اذیت زدہ۔

اله ۱۔ اَلَهَ ـَ اُلُوهَةً و إلاهَةً و اُلُوهِيَّةً بندگی کرنا۔ اَلَّـهَــهُ: کو معبود بنانا، خدا کا مرتبہ دینا، کو غلام بنانا۔ تَـأَلَّـهَ: خدا ہونا، معبود بن جانا، عبادت کے لئے علیحدہ ہونا، تارک دنیا ہونا، زاہد ہونا۔ إستَـألَـهَ معبود سے مشابہ ہونا۔ الإلَـهُ جمع آلِهة: معبود، خدا، اللہ، اللّٰـه: ذات واجب الوجود کا نام۔ اَللّٰهُـمَّ یا اللہ، اے اللہ الأُلُــوهَة و الأُلاهَة و الإلَهِيَّة و الأُلُــوهِيَّة و الأُلْهانِيَة: معبودیت، خدائی۔ الإلٰهِيّات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بحث کرنے والا علم۔

۲۔ اَلِهَ ـَ اَلَهًا: حیران ہونا، کہا جاتا ہے: اَلِهتُ علیه میں نے اس پر بہت جزع فزع کیا۔

○ اَلَّـهَـهُ: کو دیوی دیوتا بنانا، پوجنا، معبود ٹھہرانا، تَـأَلَّهَ: دیوتا یا دیوی بن جانا، اللہ خدا، دیوتا یا دیوی بن جانا، إلٰــه، إلاه: جمع آلِهة: خدا، دیوتا، دیوی، إلاهَة جمع إلٰهات: دیوی۔ اِلٰهِی و اِلاهِی: خدا کا، خدائی، ربانی، خداداد، آسمانی، نورانی، علم الٰہی کا، علم معرفت کا، دینیات کا، الإلاهِيّات: دینیاتی و روحانی معاملات۔ علم الالاهیات: دینیات، علم کلام۔ اَللّٰه اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک لہ، لِلّٰــهِ دَرُّكَ: (لفظی طور پر: تیری کامیابی اور امتیاز اللہ کے کرم سے ہے)، تو کتنا قابل، کتنا اچھا اور کس قدر معقول (عمدہ ہے) اَللّٰهُمَّ: اے اللہ، اے خدا! اَللّٰهُمَّ إلّا جب تک نہ، ایسا نہ ہو، کے سوائے یا سوا، زیادہ سے زیادہ (منفی بیان کے بعد)۔ اَللّٰهُمَّ اذا: اگر یا جب کم از کم، کاش، اگر ذرا۔ اَللّٰهُمَّ نَـعَـم: خدا کی قسم، ہاں، نہایت ہی یقیناً۔ اُلُوهِيَة: خدائی طاقت، خدائی، الوهيت، تَأْلِيه: دیوی دیوتا بنا لینا، معبود ٹھہرانا، خدا قرار دینا، آلِــه: معبود آلِهة جمع آلِهات: دیوی۔ آلِهی: خدائی، الٰہی۔ مُتَـألِّه: خدائی، الٰہی، آسمانی، اللاهوت: دیکھو لاهوت۔

الا: اَلَا ـُ اَلْوًا و اُلُوًّا و اُلِيًّا و اَلّى تَأْلِيَةً و اِئتَلى إئتِلاءً فی الأمر: کام میں کوتاہی کرنا، دیر لگانا، کہا جاتا ہے: لَمْ يَألُ جهدًا: اس نے کوشش کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ آلَى إيلاءً و تَـأَلّى و اِئتَلى: قسم کھانا، کہا جاتا ہے: آلَيتُ أفعل كذا: میں نے قسم کھائی ہے کہ یہ نہیں کروں گا (فعل قسم کے بعد لا کے حذف سے)۔ الأَلْــو عطیہ، بکری کی مینگنی الأَلُــوّ و الأَلُوَّة و الأُلُوَّة و الإلِيَّة جمع أَلاوِيَة: اگر کی لکڑی۔ الأَلْوَة و الأُلْوَة و الأَلِيَّة اور أَلِيَّة جمع الأَلايا: قسم۔ الأَلِيّ: بہت قسمیں کھانے والا۔ المِئلاة جمع مَآل:

وہ رومال جس کو نوحہ کرنے والی عورت اپنے ہاتھ میں لے کر روتی ہے۔

الی: أَلِيَ ـــ أَلَيًا الکبش کی چکی کا بڑھ جانا۔ صفت: أَلْيَان و آلْيَى مؤنث أَلْيَا و أُلْيٌ جمع

الْيٌ ـ الأَلْيَة تثنية أَلْيَان (بغیرت کے) جمع أَلَايا و أَلْيَات دبہ کی چکی۔

۲۔ الإِلْيُ و الإِلَى و الأَلْيُ جمع الآلاء نعمت۔

۳۔ الأَلَاء و الأَلَى (ایک ہمیشہ سرسبز رہنے والا درخت جس کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ واحد الأَلَاءَة۔

۴۔ الأَلَاي جمع الأَلَايات فوج کا دستہ۔ (یہ ترکی لفظ ہے۔ اس کی عربی الفيلق ہے)۔

إلى: حرف جر ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں۔

(ا) زمانی و مکانی انتہاء کیلئے جیسے: درس إلى المساء و سار إلى البيت: (اس نے شام تک پڑھا، وہ گھر گیا۔

(ب) عند کے معنی میں: جیسے: كلامهُ أشهى إلي من الرحيق: اس کی گفتگو میرے نزدیک شراب سے زیادہ مرغوب ہے۔

(ج) لام کے معنی میں: الأمرُ إليك: معاملہ تیرے اختیار میں ہے۔

(د) مع کے معنی میں جیسے: ضم هذا إلى ذاكَ: اسے اس کے ساتھ ملالو۔

إِلَيْكَ اسم فعل بمعنی أُبْعُدْ یعنی دور ہو جا جیسے إِلَيْكَ عَنّي مجھ سے دور ہو جا۔

۲۔ خذ کے معنی میں جیسے: إِلَيْكَ الكتاب: کتاب کو لے لو۔

۳۔ أُلَى: أُولَى کے معنی میں الذين جمع کے طور پر: جیسے: نحن الأُلى یعنی نحن الذين ہم وہ لوگ ہیں۔ العرب الأُلَى عرب۔ أُولَى جمع قریب کے لئے اسم اشارہ کے طور پر بھی آتا ہے۔

○ ألا ـــ ألواً في کرنے میں غفلت کرنا، کو کرنے میں ناکام رہنا، کو نہ کرنا، سے باز رہنا، احتراز کرنا، لا يألو جهدا في وہ اس کام میں ہر طرح کی کوشش کرے گا، وہ اس میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتا، کو کرنے کے لئے زحمت اٹھاتا ہے۔ آلى حلف اٹھانا، قسم کھانا۔ آلى على نفسه أن اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ۔ ايلاء حلف، قسم۔

○ ألو (Hello)

○ ألومنيوم ألومنيوم aluminium (ایک ہلکی سفید دھات)

○ إلى حيث جس حد تک، جہاں تک، کی طرف، کی جانب، تک، تاوقتیکہ، حتی کہ، جب تک کہ، یہاں تک کہ، تا۔ إلى أن تک، تاوقتیکہ، حتی کہ، جب تک کہ، یہاں تک کہ إلى آخره وغیرہ، على هذا القياس۔ إلى ذلك علاوہ، مزید برآں، علاوہ ازیں۔ إلى الآن تک إلى اللقاء خدا حافظ، إلى الأمام۔ إلى أين کہاں تک، کتنی دور إلى متى کب تک۔ إليك عني مجھ سے دور ہو جا، چلتے بنو۔ إلى جانب ذلك علاوہ ازیں، مزید براں۔ هذا إلى مزید برآں۔ إلى غير ذلك اس کی شکل، وما إليه اس کی مانند، وغیرہ وغیرہ۔ ومن إليه (إليهم) وہ اس/ ان جیسے دوسرے لوگ۔ إليك (پڑھنے والے کو مخاطب کر کے) یہاں آپ کے پاس ہے، یہاں ہے/ ہیں، ذیل میں ہے/ ہیں وإلى القارىء فيما يلي میں پڑھنے والا پائے گا جو...... اسلوب عبراني إلى العربية عبرانی کا عربی کے قریب قریب اسلوب۔ لا إلى هذا ولا إلى ذلك نہ اس طرح نہ اس طرح، کسی بھی گروہ سے غیر متعلق۔ الأمر إليك یہ آپ کا کام ہے، یہ کرنا آپ کا فرض ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔

○ آلاء (إلى جمع) فائدے، خدا کی رحمتیں

○ أَلْيَة و جمع أَلْيَات بھیڑ یا مینڈھے کی موٹی دم، پٹھا، سرین۔

إلياذة الإلياذة Iliad، رام کہانی

○ يام:

أم: حرف عطف، ہمزہ استفہام کے بعد برابری کے معنی دیتا ہے جیسے: أقريبٌ أم بعيد قریب ہے یا دور؟ کبھی بل کا معنی دیتا ہے، جیسے: هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور: کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے یا اس کی بجائے اندھیرے اور روشنی برابر ہیں۔

أمّ: أَمّ ـُ أَمًّا و أمَّم و تأمّم و إئتمّ قصد کرنا، أممتُ إمامةَ الرجل میں نے آدمی کو اپنے آگے رکھا۔ الأمام آگے۔ امام اشتباہ یا رہ

۲۔ أمّ ـُ کے دماغ کو صدمہ پہنچانا۔ أُمّ الرأس جھلی جس میں دماغ لپٹا ہوا ہو۔ الأميم و المأموم چوٹ کھایا ہوا۔

۳۔ أمّ ـُ إمامةً و أمًّا و إمامًا القومَ و بالقوم قوم کا امام بننا۔ إئتمّ کی اقتداء و پیروی کرنا۔ إستأمّ کو امام بنانا۔ الإمام (مذکر و مونث کے لئے) جمع أئمّة و أيمّة امام، وہ جس کی اقتداء کی جائے، پیشوا، نمونہ، مثال، راستہ، معمار کا وہ دھاگا یا ڈوری جس سے وہ عمارت کی سیدھ قائم کرتا ہے۔ الإمامة: امامت پیشوائی۔ الأمم جمع أمم طریقہ۔

۴۔ أَمَّت ـُ أمومة ماں ہونا تأمّم و استأمّ المرأة: عورت کو ماں بنانا الأُمّ جمع أُمّات و أُمّهات، جننے والی (کہا جاتا ہے۔ امہات انسان کے لئے اور امات بہائم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لا أمّ لك کلمہ ذم کبھی مدح ہے اور استحسان کیلئے استعمال ہوتا ہے) کسی چیز کی اصل۔ أمّ القرى مکہ معظمہ۔ أمّ الطريق شارع عام۔ أمّ النجوم کہکشاں۔ ام الدماغ جھلی ام الرأس۔ أمّ مثواك تمہارے گھر کی مالکن، بیوی۔ أمّ عِرْيَط بچھو۔ أمّ القِرَدان أمّ اربع و اربعين کنکھجورا۔ الأُمِّيَّة و الأمومة: ماں ہونا، مادرانہ شفقت، ماں بننا، مادریت، مامتا۔

۵۔ الأُمّي ان پڑھ۔ بے پڑھا لکھا۔ ناخواندہ۔ الأمّية: ناخواندگی۔ مكافحة الأمية ناخواندگی کا انسداد۔

۶۔ أمّم جائیدادوں، کمپنیوں اور پیداوار کے تمام ذرائع کو قوم کی ملکیت میں لینا، قومیانا۔ الأمّة جمع أمم جماعت، لوگوں کی نسل، وطن۔ ہم کہتے ہیں: هو من بني أمتي میرا ہم وطن ہے۔ جمعية الأمم والأمم المتحدة انجمن اقوام، اقوام متحدہ۔ التأميم قومیانہ Nationalizaion۔ شخصی املاک کو قومی بنانا۔ قانونا قومی قرار دینا، قومی ملکیت بنانے کا عمل۔

۷۔ الأمّة جمع أمم القامة قد و قامت

○ أمّ ـ أمًّا کسی جگہ جانا۔ کو ملنے جانا۔ ـ إمامة کی رہنمائی کرنا، اپنی مثال سے رہنمائی کرنا، کی امامت کرنا (نماز میں) یا کا امام ہونا۔ أمومة ماں ہونا یا بن جانا أمّم کو قومیانہ، قومی ملکیت قرار دینا، قومی ملکیت میں لینا۔ تأمّم کسی جگہ جانا۔ ۵: کو ملنے جانا۔ إئتمّ کی مثال پر چلنا۔ جمع أمّهات اصل، سرچشمہ، منبع، بنیاد، (کسی کتاب کا) اولین ترجمہ، لب لباب، جوہر، روح، ست، جمع أمّهات (ٹائپ کا) سانچہ۔ ام الحبر شانہ مچھلی، ام الحسن بلبل، عندلیب، ہزارداستان۔ ام الخلول ایک قسم کی کیڑے دار (صدفی) مچھلی جو دریاؤں میں پائی جاتی ہے۔ ام الرأس کھوپڑی، دماغ۔ ام درمان (خرطوم کے مقابل وسطی سوڈان کا ایک شہر) ام درمان۔ ام اربع و اربعين کنکھجورا۔ ام شمليق دنیا، دنیوی خوشیاں بسام العكن بسام عيشغزاني ام القرآن ام الكتاب قرآن مجید آنکھوں سے

کی پہلی سورۃ۔ ام الکتاب کا اولین متن، جس سے قرآنی وحی ماخوذ ہے۔ قرآن مجید کے وہ حصے جو بحث طلب نہیں۔
ام الوطن دارالحکومت، عروس البلاد۔ امہات الحوادث سب سے زیادہ اہم واقعات امہات الحروف ہجے حروف کے سانچے۔ امہات المسائل بڑے مسائل، امہات الفضائل بڑی نیکیاں۔ الجمع اُمم قوم، لوگ، نسل، پود، نژاد۔ اُمّہ محمد مسلمان، محمدی امت۔ اُمّی ورانہ، ماں کی سی مہربانی کا یا والا، مادرانہ شفقت کا مظہر۔ ناخواندہ، ان پڑھ، غیر تعلیم یافتہ۔ جمع اُمّیون: اُمّیۃ جہالت، ناخواندگی۔ اُممی: بین الاقوامی۔ اُمومۃ ماں ہونا، مامتا، ماں پن، ماں بنا۔ اَمام سامنے، کی موجودگی میں الی الامام آگے کو، آگے کی طرف، آگے بڑھتا ہوا۔ آگے، سامنے۔ لم یکن اَمامہُ الّا ذلک اس کے پاس اس کے سوا کوئی دوسری صورت نہ تھی کہ۔ وقف اَمامہ کی مخالفت کرنا، مزاحمت کرنا، کو روکنا اَمامی آگے کا۔ نقطۃ اَمامیۃ فوجی چوکی، چوکی کی فوج۔ الجمع اَئمۃ اِمام، پیش امام، رہنما، آقا، شاقول کی ڈوری۔ اِمامۃ پیش امامی، سرکردہ حیثیت۔ پیش روی تامیم قومیانہ۔

○ الجمع اِماء و اِموان کنیز، لونڈی۔

امّا جہاں تک...... کا تعلق ہے، لیکن تاہم، دوسری طرف، مگر، کتنا ہی، کیسا ہی اما بعد، اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے۔
اِمّا اِمّا...... و اِمّا، اِمّا...... خواہ...... یا یہ، یا، یا تو...... یا، خواہ، خواہ۔

اَما: حرف تنبیہ اور اس کے بعد اکثر قسم کھائی جاتی ہے۔ جیسے اما و اللّٰہ حرف عرض: اما تنزل بنا آنیوالے کو یہ کہہ کر "کیا آپ ہمارے ہاں قیام نہیں فرمائیں گے"۔ قیام کرنے کی پیش کش کی جاری ہے۔

۲۔ حرف تاکید کا حرف بمعنی لیکن: اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق لیکن جو لوگ ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں کہ وہ سچ ہے۔ حرف تفصیل جیسے: اما زید فربح لیکن زید نے تو فائدہ اٹھایا۔ اس کے جواب میں "فا" لانا ضروری ہے۔

۳۔ اِمّا حرف تفصیل جیسے: اِنّا ھدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا ہم نے انسان کو راستہ دکھلایا۔ اس کے بعد وہ شکرگزار بندہ بنے یا ناشکرا بن کر جئے۔

۲۔ شک و ابہام کے معنی میں: جیسے جاء اِمّا زیدٌ واِمّا عمرو: زید آیا ہے یا عمرو۔ یعنی یہ معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے کون آیا۔

۳۔ اباحت و تخییر کے معنی میں: جیسے تعلّم اما الفقہ واما اللغۃ: فقہ سیکھ یا لغت: گویا کسی ایک کا انتخاب کر کے سیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔

امبر: الأمبیر (امپیئر، برقی رو کی اکائی (ampere) جمع اَمابیر۔
۲۔ الاِمبریولوجیا (طب) جنینیات۔ جنین کا علم (embryology)
○ اِمبراطور شہنشاہ، اِمبراطور عاہراجی، سامراج کا حامی، ملوکیت پسند اِمبراطوریۃ شہنشاہی، سلطنت، قلمرو۔
○ اِمبیق کا، قرنبیق۔

امت: ○ اَمَتَ ــ اَمْتًا و اَمّتہ قیاس کرنا، اندازہ لگانا، کا قصد کرنا۔ الأمْتُ جمع اِمات و اُموت: کمزوری، شک، خلا، اونچی جگہ۔
○ اَمْتُ ٹیڑھا پن، خمیدگی، کمزوری۔

امج: اَمِجَ ــ اَمَجًا گرم ہونا، پیاسا ہونا، صیف اَمِجٌ گرم موسم گرما۔

امد: اَمَدْ بیان کرنا الأمَد آمادیت، چیز کی انتہاء، کہا جاتا ہے۔ طال علیہم الأمد ان پر مدت طویل ہوگئی۔ منذ امد غیر بعید تھوڑا عرصہ پہلے۔

۲۔ اَمِدَ ــ اَمَدًا علیہ غضبناک ہونا۔ الأمَد آمد غصہ، غضب۔

۳۔ اَمَدَ السقف چھت میں ایک قطرہ پانی کا نہ چھوڑنا۔ الآمِد و الآمِدۃ ہوائی یا بھری ہوئی کشتی۔

○ الجمع آماد خاتمہ، اختتام، آخری اڈا یا جگہ یا مقام یا مستقر۔ انتہا، عرصہ، وقت، وقت کا امتداد یا پھیلاؤ، مدت، وقفہ، فاصلہ، دوری، بعد مسافت مُنذُ اَمَدٍ بعید طویل عرصہ کیلئے یا پہلے۔ قصیر الأمد تھوڑے وقت کا، تھوڑی مدت کا، تھوڑے دوران کا، چندروزہ، ناپائیدار۔

امر: اَمَرَ ــ اَمْرًا و آمِرۃ و اِمارًا کو بنانے کا یا (کوئی کام کرنے وغیرہ کا) حکم دینا۔ صفت: آمر۔ صفت مفعولی: مأمور: کہا جاتا ہے: اَمَرَہُ الشیئ و بالشیئ: کو کسی چیز کے بنانے کا حکم دینا۔ امرہ ان یفعل و بان یفعل کو کرنے کا حکم دینا۔

۔ ایمارًا کو کسی کام کے کرنے یا بنانے کا حکم دینا۔ کو کسی کام کے کرنے یا بنانے کا فرض سونپنا یا تفویض کرنا۔ الأمرُ الجمع اَوامر حکم فعل الأمر کام کو کرنے کا حکم دینے کا صیغہ۔ الأمّر مؤنث اَمّارۃ بہت حکم دینے والا، برے کام پر اکسانے والا۔

۲۔ آمرہ مؤامرۃ فی امر کسی معاملہ میں مشورہ کرنا۔ تأمّر و ائتمر و استأمر باہم مشورہ کرنا۔ الائتمار و ائتمروا بفلان کسی کے قتل کی سازش کرنا۔ ــ و تآمروا آپس میں مشورہ کرنا۔ الاَمِر مشورہ یا رائے رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے۔ مالہ اِمّر ولا اِمّرۃ اس کے پاس کچھ نہیں۔ الأمیر الجمع اُمَراء: جس سے مشورہ طلب کیا جائے۔ المؤتمر جمع مؤتمرات کانفرنس۔ مؤتمر دولی بین الاقوامی کانفرنس۔ مؤتمر ثقافی ثقافتی کانفرنس۔ مؤتمر علمی سائنس کانفرنس۔ مؤتمر سیاسی سیاسی کانفرنس۔

۳۔ اَمَرَ ــ اَمْرًا و اُمْرًا و اِمْرۃ و اِمارۃ (حاکم) ہونا سردار ہونا۔ ــ علیہ والی ہونا اَمَّر کا حاکم، جج یا حکم مقرر کرنا۔ تأمّر علیہ تسلط پانا، خود کو کسی کا جج بنانا۔
اِئتمر الأمر و بہ کی فرمانبرداری کرنا، حکم بجالانا۔ الأمیر جمع اُمراء حاکم، سردار قوم، وہ شخص جو کسی قوم کا والی ہو مگر شریف الاصل نہ ہو۔ وہ شخص جو شریف الاصل تو ہو مگر صاحب حکومت نہ ہو۔ میرا اسی معنی میں ہے عامی زبان میں ہمزہ (أ) محذوف ہوتا ہے۔
امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب اور ان کے بعد آنے والے خلیفے اس لقب سے ملقب ہوئے۔ امیر البحر جرنیل۔ امیر الألفین یار جنٹ کا سربراہ کرنل۔ الامیرالبحر ایڈمرل (Admiral) بحری جنگی جہازوں کا قائد (بمعنی امیر البحر)
الأمیری امیر کا، امیرے سے متعلق۔ المال الامیری خراجی زمینوں سے حاصل کردہ مال۔ الطابع الامیری ٹکٹ امپ جو رسیدوں اور دستاویزات وغیرہ پر چسپاں کیا جاتا ہے اور ایک قسم کا ٹیکس ہے۔ الإمارۃ امیر کا منصب، امیر کے زیر تسلط چھوٹی ریاست۔
المؤتمر خود رائے۔

۴۔ اَمِرَ ــ اَمَرًا و اَمَرۃ الشیئ بہت ہونا، کثرت سے ہونا۔ ــ الرجل بہت مویشیوں کا مالک ہونا۔ صفت اَمِر۔ آمرہ ایمارًا اللّٰہ تعالیٰ کا کسی کے مال یا اس کی نسل کو بڑھانا۔ آمر

۵۔ الإمر عجیب، خلاف عقل وشرع کا کام لقد جئت شیئا اِمرا تو نے خلاف عقل و شرع کام کیا ہے۔
الأمر جمع اُمور کام۔ معاملہ (جیسے: ما امر فلان:

اس کا کیا معاملہ ہے) چیز۔ (جیسے لِأَمرٍ مَا کَانَ کس چیز کے سبب ایسا ہوا)۔
کذا: اُولُو الأَمر: حکام، علماء، جمع الأُمَرَة: بیابان میں پتھر کا چھوٹا سا نشان، ٹیلہ۔ جمع أَمَر
الأَمَارَة جمع أَمَارَات: علامت۔
الأَمِير: پڑوسی۔ جمع أُمَرَاء: انسان۔
التَّأمُرِيّ و التَّأمُورِيّ و التُّؤمُرِيّ: برن،
التَّأمُور: دل، بادشاہ کا وزیر۔ التَّأمُورَة: راہب کا صومعہ، شیر کی کچھار۔

۲۔ تَأَمْرَكَ الرجل: آدمی کا امیر کی (امریکی) ہونا۔ امریکی طور طریقے اور عادات اپنانا صفت: مُتَأَمْرِك۔

○ أَمَرَ ... : کو کچھ کرنے کا حکم دینا، ہدایت دینا، کے کچھ سپرد کرنا، کو کوئی کام (کرنا) تفویض کرنا۔
أَمَرَ و أَمُرَ إِمَارَةً: امیر (حاکم) ہوجانا
أَمَّرَ علی: کو پر حاکم بنانا، کو پر اختیار دینا۔
آمَرَ: سے مشورہ کرنا، سے مشورہ طلب کرنا
تَأَمَّرَ: اقتدار میں آنا، اپنے آپ کو بطور آقا نصب کرنا، حاکم کی طرح پیش آنا، حاکم جیسا رویہ اختیار کرنا، آمرانہ وضع و انداز اختیار کرنا، تحکم پسند ہونا، زبردستی کرنا، حکم چلانا، ظلم سے حکومت کرنا۔
تَآمَرَ: آپس میں مشورہ کرنا، باہم غور کرنا، سوچنا سمجھنا۔ علی: کے خلاف سازش کرنا۔
اِئْتَمَرَ ب: کے بارے میں غور کرنا، مشورہ لینا۔ علی: کے خلاف سازش کرنا۔
اِئْتَمَرَ بِأَمْرِهِ: کے احکام کی تعمیل کرنا۔
أَمْر جمع أَوَامِر: حکم، ہدایت۔ قانون، ہنگامی قانون، خاص قانون، فرمان، ڈگری، فیصلہ، طاقت، اقتدار، اختیار، صیغہ امر (گرامر)۔
أَمْرٌ عَالٍ: شاہی فرمان اور قانون۔ قانونی طاقت کا حامل حکم۔
الأَمْر و النَّهْي جمع الأَوَامِر و النَّوَاهِي: حکم و ممانعت: اقتدار اعلیٰ، کامل اختیار، اعلیٰ اتھارٹی۔
أَمْر تَورِيد: ڈلیوری کا حکم۔
تَحتَ أَمْرِك: آپ کی تحویل یا آپ کی خدمت میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے سپرد
جمع أُمُور: معاملہ، واقعہ، بات، کام، قضیہ، کاروبار، امور، واسطہ۔
أَمْر وَاقِع: حقیقت
أَمْر مَعرُوف: جس کا قریب قریب ہر شخص کو علم ہو (comnon knowledge)
فِي أَوَّلِ الأَمْر: شروع میں، سب سے پہلے
لِأَمْرٍ مَا: کسی نہ کسی وجہ سے۔
أَلَيسَ الأَمْرُ كَذٰلِك: کیا ایسا نہیں ہے؟
أَمَّا و الأَمْرُ كَذٰلِك: ایسی صورت میں، ہو گا یوں، بلاشبہ۔
مَهْمَا يَكُنْ مِن أَمْرٍ: کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ بات کیسی ہی کیوں نہ ہو۔
هُوَ بَينَ أَمْرَين: اس کے پاس دو امکانات ہیں یا دو (متبادل) صورتیں ہیں۔
الأَمر الذی قُضِيَ أَمْرُهُ: جو وہ تباہ ہو گیا، اس کے لئے مزید مواقع نہیں رہے۔
إِمَّرَة: وہ۔ سادہ لوح، بے وقوف
إِمْرَة: طاقت، اختیار، اقتدار، حکم، کمان، اثر، رسوخ، تَحتَ إِمْرَتِهِ: اس کے زیر کمان
أَمَارَة جمع أَمَارَات و أَمَائِر: نشان، علامت، نشانی، دلیل، خصوصیت، وصف۔
إِمَارَة: امیر (حاکم) کا منصب یا مقام، نوابی یا شاہانہ وضع یا رویہ یا اخلاق و عادات۔ ریاست، امارت (emirate)، اقتدار۔
إِمَارَةُ البَحر: نظارت بحریہ، امیر البحر کا منصب یا دائرہ اختیار۔
إِمَارَاتُ سَاحِلِ عُمَان: معاہداتی عمان (Oman)
أَمِير جمع أُمَرَاء: کمانڈر، شہزادہ، امیر، حاکم خاندان کے شہزادوں کا لقب۔
أَمِير الآي: رجمنٹ کمانڈر (کرنل)، کیپٹن (بحریہ کا ایک رتبہ)۔
أَمِير الأُمَرَاء: میجر جنرل
أَمِير البَحر: امیر البحر۔
كَبِير أُمَرَاء البِحَار: فلیٹ ایڈمرل (Fleet Admiral)۔
أَمِير البِحَار: ایڈمرل۔
أَمِير البَحر الأَكبَر یا أَمِير البِحَار الأَعظَم: فلیٹ ایڈمرل (Fleet admiral)
أَمِير اللِّوَاء: بریگیڈیر (brigadier)،
أَمِير لِوَاءِ العَسَّة: بڑے محل کے محافظوں کا سالار
أَمِير المُؤمِنِين: خلیفہ، مسلمانوں کا سالار
أَمِيرَة جمع أَمِيرَات: شہزادی
أَمِيرِيّ و (مِيرِي): حکومتی، ریاستی، عوامی۔
أَرض أَمِيرِيَّة: حکومت کی زمین۔
المَطبَعَة الأَمِيرِيَّة: گورنمنٹ پریس۔
أَمَّار ب: (کچھ کرنے کے لئے) ہمیشہ زور دینے والا، مطالبہ کرنے والا، ابھارنے والا، اکسانے والا، شہ دینے والا۔
النَّفس الأَمَّارَة بِالسُّوء: (انسان کی پست تر) ذات (یا نفس) جو برائی پر اکساتی ہے۔
يَأمُور: روح، ذہن، ولولہ،
مُؤَامَرَة جمع مُؤَامَرَات: غور و خوض، سوچ بچار۔ غور و فکر۔ صلاح، مشورہ، مشاورت، سازش،
تَأَمُّر: تحکمانہ انداز، تحکمانہ رویہ یا سبھاؤ، وطور طریقہ، اپنی مرضی کے تابع کرنے والی عادات۔
تَآمُر: باہمی مشورہ، مشاورت، غور و فکر، غور و خوض، سوچ بچار، سازش۔
اِئتِمَار: غور و خوض، غور و فکر، سوچ و بچار، مشاورت، سازش۔
اِستِمَارَة (عموماً اِستِمَارَه لکھا جاتا ہے): فارم (Form) (چھپا ہوا کاغذ جس کی خانہ پری کی جاتی ہے)۔
آمِر: کمانڈر۔ سالار۔ آقا، حکم دینے والا، خریدنے والا گاہک۔
الآمِرُ النَّاهِي: مطلق آقا یا مالک جس کے غیر محدود اختیارات ہوں۔
مَأمُور: مختار، کمشنر، سول آفیسر، اہلکار (خصوصاً عاملہ و نافذہ حیثیت سے)، مرکز یا قسم کا سربراہ۔
مَأمُور البُولِيس: پولیس کمشنر۔
مَأمُور التَّفلِيسَة: دیوالیہ کا متولی۔
مَأمُورِيَّة جمع مَأمُورِيَّات: حکم، ہدایت، کام، کار،
مفوضہ، مشن، کمشن، کمشنر کا دفتر، حکومتی ایجنسی کی انتظامیہ شاخ۔
مَأمُورِيَّة قَضَائِيَّة: عدالتی کمشن۔
مُتَآمِرُون: سازشی لوگ،
مُؤتَمِرُون: سازشی لوگ، کانگریس، کنونشن یا کانفرنس کے ارکان۔
مُؤتَمَر جمع مُؤتَمَرَات: کانفرنس، کنونشن، کانگریس،
مُؤتَمَر الصُّلح: صلح کانفرنس۔
تَأَمْرَكَ: امریکی ہو جانا، امریکی طرز حیات اختیار کرنا، امریکیوں کی نقل کرنا۔
تَأَمْرُك: امریکی ہونا۔
أَمَرِلِّس: نرگس کی قسم کا ایک پھول۔
أَمرِيكَا: (گزشتہ زمانہ میں امریقا): امریکہ (ایک ملک)
أَمرِيكَا الجَنُوبِيَّة: جنوبی امریکہ۔
أَمرِيكِي: امریکی، امریکی باشندہ جمع امریکیون۔
الأَمرِيكَان: امریکن لوگ۔
أَمرِيكَانِي: امریکی جمع امریکانیون)

امس: أَمْسِ: گزشتہ کل۔ الأَمْس جمع آمُس و أُمُوس و آمَاس (اعرابی حالت میں): گزشتہ دنوں میں سے ایک دن نسبت کیلئے: إِمْسِيّ (گزشتہ) کل کا (جو خلاف قیاس ہے)۔
○ أَمْسِ (حالت نصبی میں أَمْسًا) (گزشتہ) کل۔ قریب ترین ماضی، حالیہ وقت۔
أُمْسِ: (گزشتہ) کل، حال ہی میں، ابھی کچھ عرصہ قبل۔
بِالأَمْس: (گزشتہ) کل، کچھ عرصہ قبل،
أَمْس الأَوَّل: دو دن قبل، پرسوں۔
أُمْسِيَة جمع أُمْسِيَات و أَمَاسِي: شام۔

○ أَمسْتَردَام: ایک شہر کا نام۔
أَمْشِير: (قدیم مصری جنتری کے مطابق) چھٹا مہینہ۔

امع: تَأَمَّعَ و اِستَأمَعَ: ہر ایک کی رائے کا تابع بننا۔
الإِمَّع و الإِمَّعَة: ہر ایک کی رائے کا تابع۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ إِمَّعٌ و إِمَّعَة جمع إِمَّعُون۔ إِمَّع کی اصل إِنِّي مَعَك (میں تیرے ساتھ ہوں) ہے۔
○ إِمَّع و إِمَّعَة: بے کردار شخص، ابن الوقت، مصلحت بین، زمانہ ساز۔

امل ا۔ أَمَلَ۔ أَمْلًا و أَمَّلَ تَأمِيلًا ہ: کی امید کرنا
الأَمَل و الأَمْل جمع آمَال: امید۔ الإِمْلَة: امید۔ الأَمَلَة: امدادی لوگ (واحد آمِل) المَأمَل: امید، جس کی امید رکھی جائے۔
۲۔ تَأَمَّلَ الأَمرَ و فِيهِ: کسی معاملہ پر دیر تک سوچ و بچار کرنا، کہا جاتا ہے۔ تَأَمَّلَ جَمَالَ الطَّبِيعَة: اس نے قدرت کے حسن پر غور و فکر کیا۔ تَأَمَّلَ فِي حَقِيقَةٍ أَو مَسأَلَةٍ: اس نے کسی حقیقت یا مسئلہ پر سوچ و بچار کی۔
التَّأَمُّل البَاطِنِي: مراقبہ، دھیان، محو خیال۔
الأَمِيل (ك): جذر (ریاضی)

○ اَمَلَ ـُ اَمَلاً ہ / ب کی امید ہونا، کی امید ذہن میں رکھنا۔ اَمَّلَ امید رکھنا۔ ہ من کی سے توقع کرنا، امید کرنا۔ ـ ہ میں امیدیں دلانا، کے لئے امیدیں دلانا، کو امید یا توقع کرنے کی وجہ دینا اَمَّلَهُ خيرًا: کو بہتری کی امید دلانا۔ تَأَمَّلَ ہ / في کی طرف توجہ سے دیکھنا، کو غور سے دیکھنا۔ ـــ محوِ خیال ہونا مراقبہ میں ہونا۔ ـ ہ / في پر غور کرنا۔ پر غور وفکر کرنا۔ اَمَل جمع آمَال (في / ب) امید، توقع۔ اَمَل كاذِبٌ: مغالطہ آمیز امید۔ مَأْمَل جمع مَآمِل امید۔ تأمّل جمع تأمّلات: سوچ غور، غور وفکر، دھیان، تصور، استغراق، مراقبہ۔ تأمّلات مراقبے۔

آمِل و مُؤَمِّل پر امید۔ مَأمول جس کی امید کی جائے۔ متوقع مُتَأَمِّل غور وفکر والا، مستغرق، دھیان میں محو۔ متفکر، خیال میں ڈوبا ہوا، پر از غور فکر، تفکر پسند، فکر مند، دلگیر، اداس۔

امن ۱۔ أَمِنَ ـَ أَمْنًا و اَمَنًا و أَمَانًا و أَمَنَةً: مطمئن ہونا صفت أَمِن و أَمِين و آمِن۔ ـــ الأسدَ ومنه: شیر سے محفوظ رہنا اور بچنا۔ إسْتَأْمَنَهُ: سے امن چاہنا، امن طلب کرنا۔ الأَمَان: اطمینان، حفاظت، سلامتی، بچاؤ، وعدہ، نگرانی۔ الأَمَنَة اطمینان، سکون قلب۔ الأُمْوُن: وہ سواری جس کے لغزش قدم کا خدشہ نہ ہو۔ المَأْمَن: جائے امن۔

۲۔ أَمَنَ ـِ أَمْنًا ہ پر اعتماد و بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا صفت: آمِن۔ آمَنَ إيمَانًا به: کو قابل وثوق سمجھنا، پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ پر ایمان لانا۔ ـــ له کا تابعدار و مطیع ہونا۔ الأَمَانَة جمع أمانات: اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی ذمہ داری۔ الأَمَنَة: ہر ایک پر اعتماد و بھروسہ کرنے والا۔ الأُمَنَة قابل اعتماد، قابل بھروسہ۔ الأَمِين جمع أُمَنَاء: امانت دار، کسی کے پاس امانت رکھنے والا۔ کسی کی امانت رکھنے والا۔ المَأْمُون معتمد علیہ، معتبر۔ المُؤْمِن: ماننے والا، تصدیق کرنیوالا، خدا تعالیٰ کے احکام پر یقین رکھنے والا۔ الإيمَان: تصدیق کرنا، ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی وحی پر پختہ ایمان۔

۳۔ أَمُنَ ـُ أَمَانَةً امین ہونا۔ صفت: امین جمع أُمَنَاء۔ إئْتَمَنَهُ و إسْتَأْمَنَهُ: کو امین سمجھنا۔ الأَمَانَة جمع أَمَانات و الأَمَنَة امانت (خیانت کی ضد)۔

۴۔ أَمَنَ ـِ أَمْنًا ہ پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، أَمَّنَهُ: کو امن واطمینان میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے أَمَّنَ على ماله عند فلان تأمينًا اس نے اپنا مال فلاں کی سپرداری میں دیا۔ ـــ وائْتَمَنَ فلانًا على كذا کو کسی چیز پر امین بنانا۔ إسْتَأْمَنَهُ على كذا کو کسی چیز پر امین بنانا۔ الأَمَانَة جمع أمانات: جو چیز کسی کے پاس بطور امانت رکھی جائے۔

۵۔ أَمَّنَ: آمین کہنا۔ ـ آمِين و امين: اسم فعل ہے۔ اس کا معنی استجب يا فليكن كذلك ہے: یعنی قبول کر یا ایسا ہی ہو

۶۔ امانیت (ن): کمبیوں کی ایک قسم۔

۷۔ الأُمْنِيَّة: دیکھو مَنَى

○ أَمُنَ ـُ أَمَانَةً: قابل اعتماد ہونا۔ أَمِنَ ـَ أَمْنًا و أَمَانًا ہ / من: سے محفوظ ہونا، سے محفوظ محسوس کرنا۔ أَمَّنَ ہ: کو پھر یقین یا اطمینان دلانا، کی پھر ڈھارس بندھانا۔ کو پریشانی سے روکنا، ـ على / ہ کا اطمینان کرلینا، کو یقینی صورت دینا، کی حفاظت کرنا، کے حفاظتی اقدامات کرنا، کی ضمانت دینا، کی ذمہ داری لینا، کا جواز پیش کرنا، کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا۔ ـ ضدّ الحريق: آگ کے خلاف بیمہ کرانا۔ ـــ ہ على: کے کوئی چیز سپرد کرنا۔ ـ على: پر آمین کہنا۔ آمَنَ ب: پر ایمان لانا۔ إئْتَمَنَ ہ: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، پر یقین رکھنا۔ ـــ ہ على: کے سپرد کوئی چیز کرنا۔ إسْتَأْمَنَ بمعنی اِئْتَمَنَ نیز اسْتَأْمَنَ ہ: سے حفاظت کے لئے کہنا، سے حفاظت کے وعدہ کے لئے کہنا۔ سے نقصان وغیرہ سے حفاظت کے لئے کہنا۔ امن امن، سلامتی، حفاظت۔ الامن العام: امن عامہ۔ رجال الامن: پولیس۔ امان: حفاظت، سلامتی، امان، پناہ، محفوظ جگہ، بخشش، امان جان بخشی، جو دشمن ہتھیار ڈال دے اس کی معافی، حفاظت کرنا، حفاظت کی یقین دہانی، نقصان کی ضمانت، سزا سے معافی في أمان الله: خدا حافظ، اللہ تعالیٰ کے حفظ وامان میں۔ امين جمع أُمَنَاء: قابل اعتبار، قابل اعتماد، بھروسہ کے لائق، وفادار، باوفا، ایماندار، راست باز، محفوظ، بااختیار نمائندہ یا ایجنٹ، امانت دار، ـ على: کا ذمہ دار، کفیل، ضامن، سربراہ، سپرنٹنڈنٹ، مہتمم، محافظ، منتظم، سرپرست، والی، نگران، حاجب، مدار المهام، دیوان، بخشی، افسر اعلیٰ، ہم پیشہ لوگوں کی انجمن کا صدر۔ کوارٹر ماسٹر جنرل، الامين الاول: لارڈ چیمبرلین (Lord chamberlain)۔ كبير الأمناء: چیف ماسٹر آف سیریمنیز Chief Master of Ceremonies۔ امينُ المَخْزَن: گودام کا سپرنٹنڈنٹ، سٹاک کلرک۔ Stock Clerk۔ امين سِرّ الدولة: ریاست کا مستقل سیکرٹری۔ امين الصندوق و امين المال: خزانچی، خازن، معتمد مال امين العاصمة: میئر (Mayor) امين عام: سیکرٹری جنرل۔ امين المكتب: انگلستان کی بحریہ کا لیفٹیننٹ۔ (1939ء میں) أَمَانَة: قابل اعتماد ہونا۔ وفاداری، ایمانداری، اعتماد، بھروسہ، نیک نیتی، ٹرسٹ میں رکھی ہوئی امانت، تولیت، جمع امانات: ٹرسٹ میں جمع کرائی ہوئی چیز، امانت، سیکرٹریٹ، امانة الصُّندوق: محکمہ خزانہ امانة عامة: سیکرٹریٹ جنرل۔ مخزن الأمانات مسافروں کے سامان چیک کرنے کا کمرہ۔ مَأْمَن حفاظت کی جگہ، محفوظ جگہ۔ تامين حفاظت، ضمانت، بیمہ، تامين اجتماعي: محتاجی اور بیروزگاری سے رستگاری تَأْمِينٌ ضِدَّ الحريق: آگ (لگنے کے خلاف) بیمہ۔ تامين على الحياة: زندگی کا بیمہ۔ ایمان: ایمان، یقین، عقیدہ، اعتقاد، مُؤَمَّنٌ عليه بیمہ شدہ۔ مُؤْتَمَنٌ على: سپرد کردہ۔ مُؤْتَمَن راز دار، ضبط کرنے والا، عدالتی تحویل میں رکھنے والا۔

○ أُمْنِيبُوس: اومنی بس، بس bus

امه ۱۔ أَمِهَ ـَ أَمَهًا و أَمْهًا الشيءَ: کو بھول جانا، فراموش کردینا۔

۲۔ أَمَهَ ـُ أَمْهًا اليه في امرٍ: سے کسی امر میں عہد وپیمان کرنا۔

۳۔ تَأَمَّهَ المرأةَ: عورت کو ماں بنانا۔ الأُمَّهَة: ماں۔

○ أَمَوِي: لونڈی، باندی، کنیز کا یا جیسا

○ أُمَوِي: اُموی، قبیلہ بنوامیہ کا فرد۔

اما ۱۔ أَمَا ـُ و أَمِيَ ـَ و أَمُوَ ـُ أُمُوَّةً الجاريةُ: لڑکی کا لونڈی، باندی یا کنیز بننا۔ أَمَّى الجاريةَ: لڑکی کو لونڈی، باندی یا کنیز بنانا۔ تَأَمَّى و اسْتَأْمَى الجاريةَ: لڑکی کو لونڈی باندی یا کنیز بنالینا الأَمَة جمع إمَاء و أَمَوات و آم: خادمہ، مملوکہ لونڈی، نسبت: أَمَوِي: تصغیر أُمَيَّة۔

۲۔ أَمَا يَأْمُو إماءً السِّنَّورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔

۳۔ أُمَيَّة قریش کا ایک قبیلہ۔ نسبت کے لئے أُمَوِيّ بعض اوقات أَمَوِيّ بھی کہہ دیتے ہیں۔

○ اميبا: امیبا، پانی کا ابتدائی ذی روح، پانی کا ایسا کیڑا جو خوردبین سے دیکھا جاسکتا ہے۔ (amoebae)

○ اميرال امیر البحر، ایڈمرل (Admiral)۔

○ أَمِيرِكا و أَمِيرِكة: امریکہ (ایک ملک، ایک براعظم)

○ أَمِيرَالِيّة نظامت بحری۔ امیر البحر کا دفتر۔ دفتر بحریہ۔ محکمہ بحریہ۔

ان ۱۔ أَنْ حرف مصدری، مضارع کو نصب دیتا ہے۔ جیسے: أن تصوموا خيرٌ لكم بمعنی صيامكم خير لكم: تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے۔

۲۔ أَنَّ: کا مخفف جیسے: علم ان ستقع حرب: اس

نے جان لیا کہ جنگ ہوگی۔

۳۔ مفسّرۃ جیسے فاوحینا الیہ اَنِ اصنع الفلک: پس ہم نے اسے وحی کی کہ کشتی بنا۔

۴۔ کبھی تاکید کیلئے زائد ہوتا ہے جیسے: ولما اَن جاء: جب وہ آیا۔

(ب) اِنْ شرط، دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ اِن تضرِبْ تُضرَبْ اگر تو مارے گا تو تجھے مار پڑے گی۔

۲۔ حرف نفی ہے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک ''لیس'' کی طرح عمل کرتا ہے۔ جیسے: اِن احدٌ خیرًا من احدٍ الابالعافیۃ: عافیت کے بغیر کوئی کسی سے بہتر نہیں۔

۳۔ کبھی جملہ فعلیہ پر آتا ہے جیسے: اِنْ ادری اقریبٌ ام بعیدٌ ما توعدون: میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور۔ یعنی لستُ ادری۔

۴۔ کلمۂ مخفف اور زائد ہوتا ہے۔ ما اِنْ زیدٌ قائمٌ زید کھڑا نہیں۔

۵۔ حرف اِنَّ تو کید اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ جیسے: اِنّ زیدا قائمٌ: یقیناً زید کھڑا ہے۔

۲۔ حرف جواب جیسے: لعن اللّٰہُ ناقۃً حملتنی الیک: اللہ اس اونٹنی پر لعنت کرے جو مجھے تیرے در پر لے آئی۔ اور جواب میں کہا جائے: اِنَّ وراکبھا: ہاں اور اس کے سوار پر بھی۔

۶۔ اَنَّ حرف تاکید اور مصدر، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ جیسے: بلغنی اَنَّ زیدًا قائمٌ بلغنی قیامُہٗ مجھے زید کے قیام کی خبر پہنچی۔

○ اِنْ اگر۔ وَاِنْ چہ، باوجودیکہ، اس کے برعکس، ہر چیز، خواہ، ہی کیوں نہ ہو۔ اِنْ (ولا نہ ہو) یا یہ (ہو)۔ اِلّا ...... اِلّا کہ نہ، جب تک نہ۔ اِنْ ھُوَ اِلّا، ان ھی اِلّا کچھ نہیں مگر، یہ سے زیادہ نہیں۔ کَاَنَّ بِمَا اَنَّہٗ کہ وہ، چونکہ وہ۔ عَلٰی اَنَّ اللہ تک، ہر گاہ، تاہم، لیکن، مگر، پھر بھی، تاہم۔ وذلک اَنَّ یعنی، دوسرے لفظوں میں: دراصل، واقعی، حقیقت میں۔ فی الحقیقت اِنَّ لٰکن، لیکن تب، تاہم، بلکہ، برعکس، برخلاف، قدرے، کسی قدر، بہتر ہے کہ، اس کے برعکس۔

انّ: اَنَّ ۔ اَنِینًا و اَنًا و اَنَانًا و تأنانًا دکھ سے آہ آہ کرنا، کراہنا۔ الاَنِین درد ناک آواز، کراہ، کراہنا۔ انین الاطفال بچوں کی کراہ۔ انین الجیاع بھوکوں کی کراہ۔ الاَنّان و الاُنان و الاُنّۃ کراہنے والا۔ الاَنّۃ و الاُنانی الانین۔

۲۔ اَنَّ و تَاَنّنَ ملامت کرنا۔

○ جمع اَنّۃ اَنّات آہ۔ اَنّات و آہ کہتا ہیں، لمبی دردناک چیخیں، اور آہ وزاریاں نوحے۔

انا: انا متکلم اور متکلمہ کی ضمیر رفع منفصل بمعنی میں (ایک مذکر یا مونث) الاَنَا (میں) کہنا۔ الاَنَانی خود پسند، خود غرض۔ لیس لِلاَنانی صاحبٌ خودپسند کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ الاَنانِیّۃ خودی، خود پسندی، خود ستائی، تکبر، اپنی ذات سے شدید محبت اور دوسروں کے متعلق کچھ نہ سوچنا۔ گھمنڈ، خود پرستی، خودغرضی۔

۲۔ اَنَاناس (انناس) (ایک پھل)

○ اَنَانِیّ خود غرضانہ۔ خود ستیانہ، خود پسندانہ، خودغرض، خود مطلب، نفس پرور، نفس پرست۔ اَنَانِیّۃ غرضیت، خود غرضی، خودستائی، خودی کا اثبات، انانیت۔

○ الاَناضُول اناطولیہ Anatolia

انب: اَنَّبَہٗ ڈانٹنا، جھڑکنا، ملامت کرنا۔

۲۔ الاَنْبَج (آم) کا درخت۔ الاُنْبَج (آم) (ماہجا بھی کہلاتا ہے)

۳۔ الاِنْبِیق اَنابیق (عرق) کشید کرنے کا آلہ۔

○ اَنّب کو ملامت کرنا، پر الزام لگانا، کو سرزنش کرنا، جھڑکنا۔ تَانِیب ملامت، اظہار ناراضگی، سرزنش، چشم نمائی، زجر و توبیخ، الزام۔

○ (تلفظ اَمْبا): اَنْبا کلیسائی اونچا لقب قدیم مصر کے مسیحوں کی نسل کے گرجا کا جو بڑے لاٹ پادریوں، اسقفوں، بزرگوں اور ولیوں کے ناموں سے پہلے بولا جاتا تھا۔

○ اَنْبار اَنَابِر و اَنَابِیر دکان، گودام، سٹور (روم)۔

○ اُنْباشِی (ایک فوجی رتبہ) نائیک، وکیل انباشی: درجہ اول کا فوجی سپاہی۔

○ انبوب و انبوبۃ (نل)

اِنْبِیق، قرنبیق

انت: اَنْتَ (تو ایک مذکر) اَنْتِ (تو ایک مونث) جمع اَنْتُم و اَنْتُنَّ طلب اور مخاطبہ کے لئے ضمیر رفع منفصل۔

۲۔ الاَنتروبولوجی علم انسان، بشریات، انسان کا نعلیاتی اور نفسیاتی علم (anthropology)

۳۔ انتولوجی شعری، نثری یا موسیقی کے منتخب حصوں کا مجموعہ (بیاض اشعار، کلام منتخب) گلدستہ نظم، ادبی کشکول (anthology)

۴۔ الاَنْتِیمُوا ن چھاپہ خانہ کے حروف ڈھالنے میں استعمال ہونے والا سفید مادہ۔

○ اَنْتَ (مذکر) اَنْتِ (مونث): تو جمع اَنْتُم (مذکر) اَنْتُنَّ (مونث) تم لوگ۔ اَنْتَ اِذًا یہ تو ہے!

○ اَنْتِیکْخانۃ عجائب گھر، عجائب خانہ نوادرات کی نمائش کی جگہ۔

○ اَنْتِیکۃ انتیکا قدیم، پرانی وضع کا۔ دقیانوسی، جس کا رواج نہ رہا ہو۔

○ انتیمون سرمہ (Antimony)

انث: اَنُثَ اَنْثًا الحدید لوہے کا کچا و نرم ہونا صفت: اَنِیث۔ اَنِثَ کیلئے نرم ہونا، بردبار ہونا، متحمل ہونا۔ تَاَنَّث نرم ہونا، جھکنا، تہہ ہونا۔ کیلئے نرم ہونا، ڈھیلا ہونا اَنِیث نرم، ڈھیلا۔ سیفٌ اَنِیث کند تلوار مکانٌ اَنِیث جہاں سبزہ جلد اگ پڑے۔

۲۔ اَنَّثَہٗ مونث بنانا، کو مونث شمار کرنا، مخنث بنانا۔ آنَثَتْ اِیناثًا المرأۃ عورت کا لڑکی جننا۔ صفت مُؤنِث۔ تَانَّثَ مونث ہونا، مونث ہونا۔ ۔ الرجلُ زنانہ ہونا۔ الاُنْثٰی اِناث و اَنَاثیٰ و جمع اُنُث: مادہ (نر کے مقابل) المُؤنَّث مونث (مذکر کے مقابل)، زنانہ مرد۔ المِئْناث لڑکیاں جننے والی عورت مرد جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں۔ اس کے مقابلہ مِذکار لڑکے جننے والی) ہے۔

○ اَنُثَ ۔ اُنُوثۃ مونث ہونا یا ہو جانا، نسوانی ہونا، زنانہ ہونا، نامردوں کا سا ہونا۔ اَنَّثَ مونث بنانا، نامرد بنانا، کمزور اور بزدل بنانا، زنانہ بنانا، زن صفت بنانا، کسی لفظ کو مونث بنانا۔ تَانَّثَ مونث ہونا۔ (لفظ کا) مونث ہونا اُنْثٰی جمع اِناث و اَناثیٰ مونث، زن، عورت، لگائی، استری، مادہ، الاُنْثَیَیْن خصیے (testicles)

اُنُوثۃ زنانہ، عورتوں کا سا، نسوانی صفت کا، عورتوں کا، زن صفت، اُنُوثۃ زنانہ پن، نسائیت، نسوانیت، عورت پن، تَانِیث (گرامر)، زنانہ، نسوانی، نسائی مُؤنَّث (گرامر)۔

○ انثروبولوجیا انسانیات، بشریات (anthropology)

انج: الاَنْجَر جہاز کا لنگر (فارسی لفظ)

۲۔ الاِنْجِیل الاَناجِیل مرقس لوقا اور یوحنا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی بنا پر حضرت مسیح اور ان کی تعلیمات کے متعلق تحریریں۔ یہ یونانی لفظ ہے اور اس کا معنی خوشخبری ہے کیونکہ انجیل نجات کی خوشخبری پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ کتاب

کا نام ہے۔

○ اِنجاص ناخ، ناشپاتی۔

○ اِنجلترا انگلستان England انجلیزی

انگریزی، انگریز الانجلیز انگریز۔ انگلستان کے

باشندے۔

○ اِنجیلی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو قلمبند کرنے

والا انجیلی، انجیل کی تعلیمات کے متعلق، مبلغ، انجیل کو

شائع اور مشتہر کرنے والا الانجیلیۃ انجیلی عقیدہ،

مذہب، مسلک یا دین۔

○ الاَندلُس ہسپانیہ Spain (ملک کا نام)

○ اِندُونیسیا انڈونیشیا Indonesia (ملک کا نام)۔

انس اَنِسَ ـَ و اَنُسَ ـُ اُنسًا و اَنَسَۃً و اَنَسَ ـِ

اَنَسًا مانوس ہونا اَنَّسَ یُؤَنِّسُ تأنیسًا و آنَسَ

یُونِسُ ایناسًا ہ کو مانوس کرنا تَانَّسَ مانوس

ہونا اِستَانَسَ وحشت کا دور ہونا الاُنس و

الاُنسَۃ: اَنِسَت المُؤنِسات: ہتھیار۔

اَنِسَ ـَ و اَنُسَ ـُ و اَنَسَ ـِ بِہٖ و اِلَیہِ: سے محبت کرنا،

دل لگانا آنَسَ یُؤانِس مُؤَانَسَۃً ہٗ: پر مہربانی کرنا،

سے محبت کرنا، کو تسلی دینا تَانَّسَ بِہٖ: سے مانوس ہونا

اِستَانَسَ بِہٖ و اِلَیہِ: سے مانوس ہونا الاَنَس جمع

آنـاس: وہ شخص جس سے تم کو انس ہو، بڑا گروہ۔

الآنِسۃ الاَنِیس: پاکیزہ طبیعت والی لڑکی،

کنواری لڑکی الاَنُوس: بہت انس کرنے والا۔

الاَنِیس: انس کرنے والا، وہ شخص جس سے انس ہو۔

کہا جاتا ہے ما بالدار مِن اَنِیس: گھر میں کوئی نہیں

ہے۔

آنَسَ الشیءَ: کسی چیز کو دیکھنا اور جاننا آنَسَ یُونِس

ایناسًا ہٗ: کو مانوس کرنا آنَسَ الصوتَ: آواز کو سننا اور

محسوس کرنا آنَسَ الشیءَ: کسی چیز کو دیکھنا۔ اسی سے ہے:

آنَسَ من جانب الطور نارًا: موسیٰ علیہ السلام نے

طور کی جانب آگ کو دیکھا تَانَّسَ السبعُ:

درندے کا دور سے شکار کی آہٹ کو معلوم کر لینا۔

اِستَانَسَ لہٗ: کی طرف کان لگانا اور دیکھنا اِنسانُ

العین: آنکھ کی پتلی۔

تَاَنَّسَ: انسان ہونا الاِنس والاِنسیّ و الاَنَسیّ

الجمع اُناس و اَناسِیّ: آدمی۔ کہا جاتا ہے: اِنسُكَ و

ابنُ اِنسِكَ: تمہارا دوست اور حلیف الاِنسان جمع

اَناسِی و اَناسِیَۃ و آناس: انسان، آدمی خواہ مذکر ہو

یا مونث۔ نوع انسانی۔ ایک شعر میں اِنسانۃ: بھی آیا

ہے الاِنسانیّۃ: انسان کی خصوصیات۔ اس کا اکثر

استعمال اخلاق ستودہ کے لئے آتا ہے جیسے:

جوانمردی، خوش اخلاقی۔

الاِنسان الجمع اَناسِیّ و اَنَاسِیَۃ و آناس غیر مزروعہ

زمین الاَنِیس (ح) ایک آبی پرندہ جس کی آواز

گائے کی آواز سے مشابہ ہے۔

اِنسُولین (ك): شکر کی بیماری کے علاج کی ایک دواء۔

الاَنِیسُون (ن) رومی سونف۔ عام لوگ اسے یانسون

کہتے ہیں (یونانی لفظ ہے)۔

اَنِسَ ـَ و اَنُسَ ـُ اُنسًا: ملنسار ہونا، دوستوں کا دوست

ہونا، دوست ہونا، دوستانہ ہونا، بامروت ہونا، یار باش

ہونا، محبت پسند ہونا، خوش اخلاق ہونا، خوش مزاج ہونا،

ہمدرد ہونا اَنِسَ بِہٖ: کی صحبت پسند کرنا، کے ساتھ ساتھ

ہونے کو پسند کرنا اَنِسَ ب/ اِلَی: کے ساتھ گہرے

دوستانہ تعلقات ہونا اِلَی کا عادی ہونا اَنِسَ مِن

فی: میں کوئی وصف دیکھنا یا پانا یا سمجھ لینا ہٗ فی:

میں کوئی چیز محسوس کرنا، پڑھ لینا، سمجھ لینا، پہچاننا، کا

احساس ہونا، کا سا محسوس کرنا، کا دور سے دیکھ کر اندازہ

لگانا اَنِسَ لِحدیثِہٖ: کی بات غور سے سننا پسند کرنا۔

اَنَّسَ: آرام دینا، رام کرنا، پالتو بنانا آنَسَ ہٗ: کے

ساتھ دوستانہ ہونا، خوش اخلاق ہونا، کا دل خوش کرنا، کا

جی بہلانا کی مہمان نوازی کرنا، کا دل بہلانا، کی تفریح

کا سامان بہم پہنچانا آنَسَ ہٗ: کے ساتھ رہنا، کا دل

بہلانا، کا دل خوش کرنا، کو خوش کرنا، کو محظوظ کرنا، ہٗ:

کو دیکھ لینا، بھانپنا، دریافت کرنا، پہچان لینا، سمجھ لینا، کو

دور سے دیکھ کر اندازہ لگانا، کا احساس ہونا، کا سا محسوس

کرنا، کو پانا، دیکھنا آنَسَ فیہ الکفایۃ: اس نے

دیکھا کہ وہ ٹھیک طور پر اہل ہے، قابل، لائق یا موزوں

تَاَنَّسَ: مجسم (خدا کا بیٹا) ہو جانا تَانَّسَ:

ملنسار ہونا، یار باش ہونا، صحبت پسند ہونا، دوستوں کا

دوست ہونا، ساتھی بننے کے لائق ہونا، گہرا یا جگری کا

دوست بن جانا، پالتو ہو جانا، رام ہو جانا ہٗ:

دوستانہ ہونا، خوش اخلاق ہونا، پر مہربان ہونا:

بامروت ہونا، عادی ہونا، خوگر ہونا، آرام سے بیٹھ

جانا اِلَی / ب: سے واقف ہونا، بے تکلف ہونا، کا

عادی ہونا، سے آگاہ ہونا، مطلع ہونا ب: کے

بارے میں مطلع ہونا، کے متعلق معلومات جمع کرنا، کا

خیال کرنا، کو حساب میں رکھنا، کو عمل میں لانا ل: کی

بات غور سے سننا، (رائے) پر کان دھرنا، کی طرف توجہ

دینا اُنس: ملنساری، یار باشی، صحبت، گہری دوستی،

واقفیت، آشنائی، بے تکلفی، دوستانہ فضا کَعب اُنسی:

ٹخنے کی ہڈی، گھٹنے کی اندرونی ہڈی اِنس: آدمی،

نوع انسان، انسانی نسل بشر، آدم زاد، انسان

جس میں انسانیت ہو اُناس و اُنـاس: لوگ،

نَاسُوت: بنی نوع انسان، بنی آدم، اولاد آدم، انسان،

نسل انسانی مرد، بشریت، بشری فضائل، انسانی

ہمدردی اُنسی: لوگ، انسان اَنِیس: قریبی، دلی،

جگری، گہرا، گہرا یا جگری دوست، دوستانہ، مہربان،

خوش اخلاق، خلیق، خندہ جبین، بامروت، خوش خلق،

شائستہ، مہذب، شریف، متواضع، باادب اِنسان:

آدمی، انسان اِنسانُ العین: آنکھ کی پتلی اِنسانۃ

عورت اِنسانی: انسانی، بشری، نرم دل، ہمدرد، شفیق،

مذہب انسانیت کا پیرو، بشر دوست، غریب نواز، اپنے

خرچ پر معاشرتی بہبود کے کام کرنے والا اِنسانِیۃ

نوع انسان، انسانی فطرت، انسان دوستی، بشر دوستی،

ہمدردی، خوش خلقی، شائستگی، مروت، خلق، تہذیب،

انسانیت، نسل انسانی مُؤانسۃ: گہری دوستی، تعلق،

واقفیت، آشنائی، بے تکلفی، دوستی، دوستانہ، سلوک،

ہمدردی، ملنساری، تپاک، گرم جوشی، یار باشی، صحبت،

زندہ دلی، جشن سازی ایناس: سرور، شگفتگی، خوشی،

فرحت، تفریح، دوستانہ برتاؤ، زندہ دلی، خوش مزاجی،

گہری دوستی، ارتباط و اختلاط، بے تکلفی، میل ملاپ،

تپاک، گرم جوشی، صحبت پسندی، میل جول تَانُّس:

مجسم، زندہ نمونہ، اوتار، مظہر، انسانی شکل (مسیحیت کا

عقیدہ)۔

اِستِئناس: سماجی زندگی، صحبت پسندی، ملنساری آنِسَۃ جمع

آنسـات و اَوَانِس: نوجوان خاتون، مس: (غیر

شادی شدہ لڑکی عورت) مَانُوس: عادی، واقف

مُستَانِس: پالتو، اہلی، کمزور، دبو۔

اِنش: انچ (inch)

اَنشُوجَۃ: ایک چھوٹی مچھلی (anchovy)

انص: اَنِصَ ـَ اَنِیصًا اللحمُ: گوشت کا بگڑ جانا،

خراب ہو جانا آنَصَ ایناصًا اللحمَ: گوشت کو نیم

بریاں کرنا۔

○ اَنطاکِیَۃ: انطاکیہ (نام کا ایک قدیم شہر آجکل جنوبی

ترکی کا شہر)

اَنطَولُوجی: وجودیات کے متعلق (Ontological)

انف: اَنِفَ ـَ اَنَفًا البعیرُ: اونٹ کی ناک میں بیماری

پیدا ہونا اَنَفَ: اَنَفَہٗ ـِ اَنفًا: کی ناک پر مارنا۔

الاَنف (ع ا) الجمع آناف، اُنُوف و آنُف: ناک

(کہا جاتا ہے مات حتفَ اَنفِہٖ: وہ اپنی طبعی موت

مرا حَمِیَ اَنفُہٗ: وہ ذلیل و رسوا ہو حَمِیَ اَنفُہٗ: وہ

مضبوط اور طاقت ور ہو گیا، وہ غالب اور زبردست

ہو اَنفُ الجبل: پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا حصہ ہو)

سارنگی میں لگا ہوا ہاتھی دانت یا دانت کا ایک باریک ٹکڑا یا دوتارہ میں لکڑی کی سلاخ جو اس کے ایک سرے پر خط اتصال پر لگی ہوتی ہے۔ انفُ العِجل: ایک قسم کا پھولدار پودا۔ پھول بعض جانوروں کے سروں کے مشابہ ہوتے ہیں۔

۲۔ اَنِفَ ـــ اَنَفًا من العارِ: خوددار ہونا، کو ناپسند کرنا صفت: اَنُوف اسم الاَنَفَۃ: عزتِ نفس۔

۳۔ اِئتَنَفَ و اِستَأنَفَ الشیءَ: کو شروع کرنا۔ اِستَأنَفَ الدعوی: اس نے اپیل کی۔ محام فی الاِستئناف: اپیل کنندہ وکیل۔ آنِفًا: ابھی، کہا جاتا ہے: ذکرتہ آنِفًا: میں نے ابھی (تھوڑی دیر پہلے) اس کا ذکر کیا تھا۔ آنِفَۃُ الشباب: عنفوانِ شباب۔ کہا جاتا ہے۔ مضت آنِفَۃُ الشباب: عنفوان شباب گزر گیا، جوش جوانی جاتا رہا۔ انفُ کلِ شیءٍ: ہر چیز کی ابتداء الأُنُفُ من الریاض: وہ سبزہ زار جس کو کسی نے چرا نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں: غابۃٌ اُنُفٌ: جنگل جس میں جانوروں نے گھاس وغیرہ نہ چرا ہو۔ کأسٌ اُنُف: وہ پیالہ جس سے کسی نے پیا نہ ہو۔ اچھوتا پیالا المُستأنَف: نیا۔

○ اَنِفَ ـ اَنَفًا من: کو حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، سے نفرت کرنا۔ ـــ ان: کچھ کرنے کو حقیر جاننا یا حقارت سے دیکھنا یا کچھ کرنے سے نفرت کرنا۔ ـــ ہ: کو تکبر سے مسترد کرنا۔ اِستَأنَفَ ہ: کو پھر شروع کرنا، کی تجدید کرنا، کا پھر آغاز کرنا، کو پھر جاری کرنا۔ ـــ ہ: (دعوی) کی اپیل کرنا اَنف جمع آناف و اُنُوف: ناک، پہاڑ کا ایک طرف کو نکلا ہوا حصہ، غرور، تکبر۔ رَغمَ اَنفِہ: کی عدول حکمی میں، کی مخالفت میں، کو نقصان پہنچانے کے لئے، کو نیچا دکھانے کے لئے۔ کسر اَنفَہُ: کو ذلیل کرنا۔ شامخُ الانف: مغرور، متکبر، خود پسند، خود بین، گھمنڈ میں چور، اکڑ باز، خلوت پسند۔ انفی: ناک کا اَنَفَۃ: غرور، تکبر، استرداد ـ من: سے حقارت۔ اَنُوف: مغرور، خلوت پسند، نخوت پسند، ناک چڑھا، حقارت آمیز۔ اِستِئناف: نیا آغاز، دوبارہ آغاز، تجدید، دوبارہ آغاز، از سر نو آغاز، دوبارہ کھولنا (کوئی قانونی مقدمہ) اپیل۔ قَدَّمَ اِستِئنافًا: اپیل کرنا، اپیل دائر کرنا۔ اِستِئنافی: اپیل کا، اپیل سننے اور فیصلہ کرنے کا مجاز۔ اِستِئنافِیًّا: بذریعہ اپیل۔ آنِف: پہلے یا آگے ہونے والا، بالا آنِفُ الذکر: مذکورہ بالا، آنِفًا: پہلے، اوپر، مذکورہ صدر، مذکورہ بالا (گفتگو وغیرہ میں) مُستَأنَف: اولین،

اَنفَرس: antwerp شمالی بلجیم کے ایک شہر کا نام۔

○ اِنفلونزا: انفلونزا (influenza)

انق: ۱۔ اَنِقَ ـ اَنَقًا: خوش ہونا۔

۲۔ اَنِقَ ـ اَنَقًا الشیءَ: کسی چیز کو پسند کرنا۔ ـ بہ: کو پسند کر کے دوسری اشیاء کے مقابلہ میں اس کو اختیار کرنا۔ ـ الشیءُ: خوبصورت ہونا، عمدہ اور پسندیدہ ہونا، کہا جاتا: روضۃ انیقٌ و انیقۃٌ: خوبصورت وخوش منظر باغ۔ آنَقَہُ: کو تعجب میں ڈالنا۔ آنَقَہُ اِیناقًا و نیقًا: کو تعجب میں ڈالنا (نیقًا مصدر خلاف قیاس ہے) تَأنَّقَ: کسی ستھری چیز کا پیچھا کرنا، نفاست پسند ہونا۔ ـ فی الکلامِ او العملِ: گفتگو یا کام کو احتیاط اور حکمت سے کرنا۔ ـ المکانَ: پسند آنے کے سبب کسی جگہ سے جدا نہ ہونا۔ الأَناقۃ و الإناقۃ: پسندیدہ حسن، کہا جاتا ہے۔ فیہ اناقۃٌ ولباقۃٌ: اس میں حسن اور پھرتی (تیز فہمی) ہے۔

۳۔ الأَنوق (ح): عقاب، گدھ کہا جاتا ہے۔ ھو اعزُّ من بیضِ الأَنوق: وہ عقاب کے انڈے سے زیادہ کمیاب ہے یعنی بالکل نایاب ہے۔

○ اَنِقَ ـ اَنَقًا: صاف ستھرا ہونا، خوش ترتیب ہونا، بنا ٹھنا یا سجیلا ہونا، خوش انداز ہونا، حسین ہونا۔ ـــ ب: کے بارے میں خوش ہونا، سے لطف اٹھانا۔ آنَقَہُ: کو پسند کرنا، بہت اچھا لگنا۔ یُونِقُہُ الشیءُ: اس کو چیز پسند ہے۔ وہ چیز کو پسند کرتا ہے۔ تأنّق فی: سرگرمی اور بے حد احتیاط سے کوئی کام کرنا۔ ـ: سخت محتاط ہونا، نزاکت پسند ہونا، نازک مزاج ہونا، نفاست پسند ہونا، طرح دار ہونا، وضع دار ہونا، خوش پوش ہونا، خوش وضع ہونا، شاندار ہونا، حسین وجمیل ہونا، اناقۃ: خوش وضعی، سلیقہ مندی، اَنِیق: صاف ستھرا، خوش ترتیب، بنا ٹھنا، بنا سنورا، خوبصورت، شکیل، خوش اندام، خوش وضع، طرحدار، وضع دار، اَنُوق: مصری گدھ، کرگس، اعز من بیض الانوق: گدھ کے انڈوں سے زیادہ کمیاب۔ تأنُّق: خوش وضعی، سلیقہ مندی، مُونِق و مُونِق: خوبصورت، حسین وجمیل، خوش انداز، دلکش، نازک مزاج، نفاست پسند۔ خوش گوار، خوش آئند، مُتأنِّق: خوش وضع۔ طرحدار، وضع دار۔

○ انقرہ: انقرہ (ایک شہر کا نام)

○ انقلیس: بام مچھلی۔

○ اِنکشاری جمع اِنکشاریۃ: جانثار فوج کا سپاہی، ترکی کے محافظ دستے کا سپاہی۔

الانکلترا و الکلترۃ: انگلستان England۔

برطانیہ کے جرمن فاتحین۔

○ الأنکلیز: انگریز (لوگ) انکلیزی: انگریز۔

○ اَنکلیس: بام مچھلی۔

انم: الأنام و الآنام: مخلوق نوع انسانی۔

○ اُنموذَج: ماڈل، نمونہ، ٹائپ، مثال۔

○ اَنمون: شقائق النعمان (anemone)

انی: ۱۔ أَنَی ـــ أَنْیًا و إِنًی و أَنَاءً و أَنَی تَأنِیۃً: قریب ہونا، قریب آنا، آنا۔ النباتُ: نبات کا پکنا، الأَناء والأَنی و الإِنی: وقت کا آنا، پکنا۔

۲۔ أَنَی یَأنِی و أَنِی ـ أَنْیًا و إِنًی: پیچھے رہنا، دیر کرنا، صفت: أَنِیٌّ، آنَی إیناءً فلانًا: کو پیچھے ڈالنا، دیر کرانا۔

۳۔ أَنَی یَأنِی و أَنِیَ ـــ أُنِیًّا و إِنًی: دیر کرنا۔ تأنّی و استأنَی الرجلَ: کو مہلت دینا۔ ـــ فی الأمرِ و بہ: پر غور و فکر کرنا، کا انتظار کرنا، سے انکساری سے سلوک کرنا۔ الأَناۃ: انتظار، مہلت، وقار، بردباری۔

۴۔ أَنَی ـ أَنْیًا الرجلُ: مہربان ہونا، رجلٌ آنٍ: بہت بردبار اور باوقار مرد۔ الأَنْی جمع آناء و أُنِیّ: بردباری۔

۵۔ الأَنی جمع آناء و أُنِیّ: پہر دن یا اس کا حصہ آناءُ اللیلِ و اطرافُ النہار: رات دن، شب و روز، الإناء جمع آنِیۃ جمع الجمع أَوانٍ برتن۔

○ أَنَی ـ أَنْیًا: پک جانا، قریب آنا، پہنچنا، آنا (خصوصاً وقت کا)۔ آنَی لہ ان: کچھ کرنے کے لئے اس کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ أَلَمْ یَأنِ: کیا یہ تقریباً وقت نہیں؟ تأنّی: آہستہ آہستہ کرنا، کرتے رہنا، موقع کا انتظار کرنا، صابر ہونا، اِستأنَی فی: (میں، کے ساتھ) ہچکچاہٹ، تذبذب میں پڑنا، تامل کرنا۔ ـــ: انتظار کرنا۔ أَنَی جمع آناء: وقت (کا وقفہ، عرصہ) مدت، فی أَناءِ اللیل: تمام رات، آناءَ اللیل و اطرافَ النہار: دن رات، شب و روز أَناۃ: احتیاط، سوچ و بچار، غور و تامل، ثابت قدمی، استقلال، مستقل مزاجی، بردباری، صبر تحمل، برداشت، طولُ الأَناۃ: طویل، مصیبت، دکھ یا تکلیف، بہت تحمل، طویل الأَناۃ: بہت برداشت کرنے والا۔ إناء جمع آنِیۃ و اوانٍ: برتن، چیز دانی، ڈبہ، بوتل وغیرہ، ظرف۔ آنیۃ الطعام: کھانے کی میز کے استعمال کی چیزیں، چینی کے برتن، مشترکہ کھانے کا کٹ (mess kit) تأنٍّ: آہستگی، احتیاط، سوچ بچار۔ مُتأنٍّ: آہستہ محتاط۔

أَنَّی: ظرف مکان، دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ جہاں

(این کے معنی میں) جیسے أَنَّى تَجْلِسُ أَجْلِسُ: جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ کبھی مِن اَین کا معنی دیتا ہے جیسے۔ انی لك ذلك وہ تمہیں کہاں سے ملا۔ کبھی متی (کب) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے: أَنَّى جِئْتَ: تم کب آئے؟ کبھی استفہام کے لئے بمعنی کیف (کس طرح) آتا ہے۔ جیسے انی یُحْيِ هذه اللّٰهُ بعد موتها: اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیونکر زندہ کریگا؟ انی یکونُ ذلك یہ کیسے ہوگا؟

انو انوفیلیس (او بعوضة الاَجَمِيَّة) ایک قسم کا مچھر جس سے ملیریا پیدا ہوتا ہے (anophetles)

انیسون سونف، بادیان۔

اہ و اوہ و آہ و آوہ و آوِہ و آہا ہائے افسوس (درد کے اظہار کا لفظ ہے) آہ من هذا الأمر ہائے مجھے اس سے دکھ ہوتا ہے۔ آہَ ـُ أَهًّا و أَهَّةً و إِهَّةً و تَهَّةً: آہ بھرنا، آہ کرنا۔

آہا آہا اف، ہائے، ارے، توبہ۔

اہب أَهَبَ و تَأَهَّبَ للأمرِ کسی کام کیلئے تیار ہونا، آمادہ ہونا۔ الأُهْبَة سامان، کہا جاتا ہے۔ اخذ للسفرِ اُهْبَتَهُ اس نے سامان سفر تیار کیا۔ سفر کی تیاری کی۔ الإهاب جمع أُهُب و أَهَب و آهِبَة چمڑا، کچا چمڑا، کچی کھال۔

أَهَّبَ ہ / ہ لِ کو کیلئے تیار کرنا، کو سے لیس کرنا، کو ساز و سامان مہیا کرنا۔ تَأَهَّبَ تیار ہونا، ـــ لِ کیلئے لیس ہونا، ساز و سامان سے آراستہ ہونا۔ تیار ہونا اُهْبَة جمع أُهَب: تیاری، چوکسی، ساز و سامان، ساز و یراق، لباس وغیرہ۔ اُهْبَة الحَرْب: فوجی ساز و سامان، علی اهبة الرحیل: روانہ ہونے کیلئے تیار۔ علی اهبة الاستعداد: مکمل طور پر تیار، چوکس اخذ اُهْبَتَهُ اپنی تیاریاں کرنا۔ إهاب کھال، چمڑا۔ تَأَهُّب جمع تَأَهُّبات تیاری۔ مُتَأَهِّب: تیار۔

اہل ا۔ أَهِلَ ـَ أَهَلاً به: سے دل لگانا۔ أَهِلَ المكانُ او البلدُ: جگہ یا شہر کا آباد ہونا۔ صفت آهِل و مَأْهُول۔ اَهَلَ ـُ اَهْلاً و اُهُولاً الرجلُ: شادی شدہ ہونا۔ ـــ امْرَأَةً عورت سے شادی کرنا۔ صفت مفعولی مَأْهُولَة۔ آهَلَهُ إيهالاً کی شادی کرنا۔ أَهَّلَ به: کو اہلاً وسہلاً کرنا، کو خوش آمدید کہنا۔ تَأَهَّلَ و إتَّهَلَ شادی کرنا، گھر بار والا ہونا۔ الأَهْل جمع أَهْلُون و أَهَالٍ و آهَال و أَهْلات و أَهَلات کنبہ، رشتہ دار۔ اَهْلُ الرجُل: بیوی اهلُ الامرِ: حکام۔ اَهْلُ المَذْهَب: ہم مذہب اهل الوَبَر: خیموں میں رہنے والے، بدو اهل المَدَرا و الحضر مکانوں میں رہنے والے، شہری لوگ اَهْلاً و سَهْلاً خوش آمدید۔ اصل میں یہ کلام یوں ہے: صادفتَ أَهْلاً لا غرباءَ و وَطِئْتَ سَهْلاً لا وَعْرًا تو نے اپنے ہی گھر والوں کو پایا نہ کہ اجنبیوں کو اور نرم زمین میں آیا نہ کہ سخت زمین میں۔ الآهِل بیوی بچوں والا۔ ـــ من الامكنة آباد جگہ الأَهِل و الأَهْلِيّ پالتو جانور، آپ کہتے ہیں: حيوانٌ أَهْلِيٌّ پالتو جانور، اس کی ضد حيوان بَرِّيّ: جنگلی جانور۔

۲۔ أَهِلَ و أَهَّلَ ہ للأمر کو کسی کام کے لائق بنانا یا سمجھنا۔ تَأَهَّلَ للامر کسی کام کے لائق ہونا۔ اِسْتَأْهَلَ الرجلَ کو کسی کام کے لائق سمجھنا۔ ـــ الشيءَ کے لائق ہونا، کا اہل ہونا۔ الأَهْلِيَّة قابلیت، لیاقت، صلاحیت، المُؤَهِّلات اہلیت، علمیت، صلاحیت، قابلیت، قدرت، موزونیت میلان طبع رجحان۔

اہل ـَ ب سے بے تکلفانہ تعلقات ہونا، اَهِلَ (کسی جگہ وغیرہ کا) آباد ہونا۔ اَهَّلَ ہ / ہ ل کو کیلئے موزوں بنانا، کو کا اہل بنانا۔ ـــ ل ہ کے لئے کسی بات کو ممکن بنانا، کو کے قابل کرنا یا بنانا، کے لئے مجاز کرنا، مختار کرنا یا بنانا، کے لئے کسی چیز کو سہل الحصول، قابل حصول یا قابل رسائی بنانا۔ ـــ ب کو خوش آمدید کہنا۔ تَأَهَّلَ لِ کے لئے موزوں ہونا یا ہو جانا، اہل ہونا، مستند ہونا، تَأَهَّلَ شادی کرنا، گھر بار والا ہونا۔ استأهل ہ کا مستحق ہونا، حق دار ہونا، سزاوار ہونا، مستوجب ہونا، کے لائق ہونا، کے قابل ہونا، شایان ہونا۔ أَهْل جمع أَهْلُون و أَهَالٍ رشتہ دار، کنبہ، بیوی، لوگ، ارکان، پیروکار، حامی، حمایتی، وابستہ، وابستہ دامن، پیرو، طرف دار، ہواخواہ، مالک، قابض، رہنے والے، ساکن، باشندہ، ـ ل: کا مستحق، حق دار، سزاوار، مستوجب، کے لائق، کے قابل، کے شایان، کے لئے موزوں، کا اہل، جمع اَهْلُون و الأَهَالِي (کے) باشندے، (کی) دیسی یا ملکی آبادی۔

اهل البيت: گھر کے یا کنبہ کے ارکان، لوگ۔ اهل الدار: گھر والے۔ اهل الحرفة کسی پیشہ والے۔ اهل الحلف: عہد والے۔ اهلُ الخبرة تجربہ کار لوگ، ماہرین۔ اهل السَّفْسَطَة سوفسطائی، غلط دلیلوں سے دھوکا دینے والے اهلُ السُّنَّة: سنی (لوگ)۔ اهل المَدَرِ و الوبرِ آبادیوں میں رہنے والے اور خانہ بدوش یا بدوی۔ اهل الوجاهة: معززین۔ اهلا و سهلا: خوش آمدید اَهْلاً بكَ آپ کو خوش آمدید۔ لهُ في دارنا اهل و سهل وہ ہمارا خوش آمدید مہمان ہے۔ اَهْلِيّ خانگی، خاندانی، گھریلو، کنبہ کا، دیسی، ملکی، مقیم، رہائشی، وطنی، داخلی، قومی، بنك اهلي قومی بینک۔ حربٌ أَهْلِيَّة خانہ جنگی۔ محكمة أَهْلِيَّة دیسی عدالت۔ القضاء الاهلی دیسی عدالتوں کا دائرہ اختیار۔ الانتاج الاهلی گھریلو پیداوار۔ وقف اهلی خاندانی وقف۔ أَهْلِيَة رجحان، مناسبت، میلان، موزونیت، اہلیت، استعداد، لیاقت، قابلیت، علمیت، الاهلية القانونية شہری حقوق۔ کامل الاهلية قانونی طور پر مجاز عديم الاهلية قانونی طور پر غیر مجاز، زیر نگرانی مُؤَهَّل لِ (کسی عہدے وغیرہ) کے قابل، اہل، لائق۔ مُسْتَأْهِل لائق، قابل، سزاوار، مستحق۔ شایان شان، موزوں، مناسب، مستوجب، حق دار آهِل و مأهول آباد (علاقہ، جگہ) مُتَأَهِّل شادی شدہ۔ إِهْلِيلَج ہلیلہ، بڑی ہڑ، ہلیلہ کابلی۔

او: أَوْ حرف عطف۔ مندرجہ ذیل معانی میں آتا ہے:

۱۔ شك جیسے: بتنا يوما او يومين: ہم ایک یا دو دن رہے۔

۲۔ ابہام: نحن او انتم علی الحق یا تو ہم حق پر ہیں یا تم۔

۳۔ اباحت: جیسے جالسِ العلماء او الزهاد: علماء کے پاس بیٹھو یا زاہدوں کے پاس۔

۴۔ تخییر جیسے: سر راكباً أو ماشياً: سوار ہو کر چلو یا پیدل۔

۵۔ تقسیم: جیسے الكلمة اسم او فعل او حرف کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔

۶۔ کبھی اِلٰى کے معنی میں آتا ہے: لألزمنك او تعطيني حقي: میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تم میرا حق دو۔

۷۔ کبھی اِلّا کا معنی دیتا ہے۔ جیسے: لأقتلنّ العدو او يخضع: میں دشمن سے لڑوں گا مگر یہ کہ وہ مطیع ہو جائے۔

اوْ یا، اگر نہ، جب تک نہ، سوائے اس کے کہ

اوب ا۔ آبَ ـُ أَوْبًا و مَآبًا و مَآبًا من السفر سفر سے واپس آنا۔ صفت: آئِب جمع أَوَّب و أُيَّاب و أُوَّاب ـــ إلى الله: اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، آوَبَ مُوَاوَبَةَ الرِكابِ: چلنے میں مقابلہ کرنا۔ اوَّب و أَيَّبَ عنه: سے لوٹنا۔ تأَوَّبَ و تَأَيَّبَ و إِئتاب لوٹنا واپس ہونا۔ الأَوْب و الأَوْبَة و الإياب: واپسی، رجوع، ہم کہتے ہیں مَشَى ذهابا و ايابا: وہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے چلا۔ الأَوَّاب توبہ کرنے

والالملمآب ج مآوب: واپس لوٹنے کی جگہ۔ کہاجاتا ہے بینھما ثلاثۃ مآوِب: ان دونوں کے درمیان تین منزلوں کا فاصلہ ہے۔

آبَتْ ـُ أَوْبًا ومَآبًا الشمسُ: سورج کا غروب ہونا۔

آبَ ـُ أَوْبًا و مَآبًا الماءَ: رات کے وقت پانی پر اترنا

تأوَّب و تأيَّبَ و ائتابَ الماءَ: رات کے وقت پانی پر اترنا۔

آبَ أوْبًا إليه: کے پاس رات کے وقت آنا

و آوَبَ مُؤَاوَبَةً القومُ: تمام دن چلنا اور رات کو قیام کرنا۔

هَبَ ـُ أوْبَاهُ: کا قصد کرنا الأوب: قصد، عادت راستہ، جہت، کہاجاتا ہے: جاؤ و امن کلّ أوْبٍ وہ ہرطرف سے آیا۔ کنتُ علی صوب فلانٍ و اوبه: میں فلاں شخص کے روش اور طریقہ پر تھا۔

اَوِبَ ـَ أوَبًا: غضبناک ہونا، ناراض ہونا۔

لوبُو بانکس (ن): پیلے پھولوں والا درخت جس سے گوند نکال کر دوسری جڑی بوٹیوں میں ملا کر طب میں استعمال کی جاتی ہے۔

اوب: آبَ ـُ أوْبًا و أوْبَةً و إيابًا: واپس آنا یا لوٹنا۔

آب ب: کو پکڑنا، پھانسنا، گرفت میں لینا، کوسر لینا، سر چڑھالینا، مول لینا (بیماری، قرض)، اٹھانا، برداشت کرنا، جھیلنا، کو ہونا (جیسے تکلیف) (قرض خرچ) اٹھانا، ناراضگی وغیرہ مول لینا، کے ساتھ رہ جانا، سے اپنا حصہ لینا من کلّ اوب: سب طرف سے، سب پہلوؤں سے من کلّ اوبٍ وصَوْبٍ: ہرطرف سے ہر پہلو سے، سب طرف سے، سب پہلوؤں

الأوبة: واپسی الإیاب: واپسی ذهابًا و إيابًا: آگے پیچھے، ادھر ادھر، اوپر نیچے۔ آتے جاتے۔

مَآب: جگہ جہاں کوئی واپس آئے۔ واپسی ہوب

ومآب: آنا اور جانا آب: اگست (مہینہ کا نام)۔

اوبرا و اوبرا: اوپرا، آپرا، غنائیہ opera، غنائیہ خار (opera house

اوبریت: غنائیہ، چھوٹا آپرا (operetta)

اوت: اگست (مہینہ کا نام، فرانسیسی لفظ)

اوت: الأتوبوس یا أتوبيس: موٹربس (autobus) اسے اوتوکار بھی کہتے ہیں۔ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانے والی نشستوں والی گاڑی۔

الأتوستراد: گاڑیوں کے لئے چوڑی سڑک جس کے دونوں طرف درخت اور فٹ پاتھ بنے ہوں۔

أُوتُوقراطی: مستبد، استبدادی حاکم

اوتوقراطی: مستبد حاکم۔ (یونانی لفظ) الأوتوقراطية: مطلق العنان حکومت، استبداد (autocracy) سلطة أوتوقراطية: استبدادی حکومت۔

أوتوماتيك: خودکار، خودحرکی automatic آلة اوتوماتیکیۃ: خودحرکی کل۔ آپ چالو مشین۔

الهاتف الاوتوماتيكي: خودکار ٹیلیفون (یونانی لفظ)

اوتوبیس: آٹوبس، بس۔

اوتوجراف ج اوتوجرافات: آٹوگراف، اپنی قلمی تحریر۔

اوتوموبیل: آٹوموبیل Automobile موٹرکار

اوتیل ج اوتیلات: ہوٹل hotel

اوج: الأوج: بلندی، کہاجاتا ہے: أوْجُ المجد شرافت کی بلندی، ناموری کا اوج (فلکیات) مدار قمر (apogee) (چاند کے مدار کا وہ نقطہ جہاں وہ زمین سے بعید ترین ہوتا ہے)(موسیقی) فن موسیقی میں راگ کے ایک سُر کا نام۔

اوج: بلند ترین نقطہ، نقطہ عروج، اوج، انتہا، کلس، کنگرہ، کمال، منتہائے کمال، اوج مدار قمر، (مجازاً شہرت، اقتدار کی) انتہاء۔

الآح: انڈے کی سفیدی۔

آدَ ـُ أوْدًا و أؤُودًا هُ الحملُ: کو بوجھ کا بوجھل کرنا الامرُ: کام کا کسی کو گراں بار کرنا۔ بھاری لگنا صفت مفعولی: مؤود تلؤوده الامرُ: کو کسی کام کا شاق گزرنا، گراں کرنا الأُود: تکلیف، تکان، کہاجاتا ہے مازالَ يَؤُودُ عائلته: اس نے اپنے کنبہ کا بوجھ اٹھائے رکھا۔ (یہ جدید استعمال ہے)۔

المؤيد ج مآيد: امر عظیم ج مآود: مصیبتیں۔

الأودة: بوجھ۔

آدَ ـُ أوْدًا و أوَّدَ العودَ: لکڑی کو موڑنا، اور ٹیڑھا کرنا أَوِدَ ـَ أوَدًا و تأوَّدَ: ٹیڑھا ہونا، مڑنا۔ صفت مونث أوْداءُ ج أُود انثنى: جھکنا، مڑنا، ٹیڑھا ہونا الأَوَد: ٹیڑھا پن، کجی، کہاجاتا ہے: قَوَّمَ أَوَدَهُ: اس نے اپنی کجی کو سیدھا کیا۔

آدَ ـُ أوْدًا الفيءُ: سایہ کا ڈھلنا، العشي: رات کی ابتدائی تاریکی کا جھکنا۔

قام باودہ: کی ضروریات مہیا کرنا، ضرورت کے وقت کسی کی مدد کرنا قام أودَهُ: کسی کی ضروریات مہیا کرنا، ضرورت کے وقت کسی کی مدد کرنا، کی کفالت کرنا، کا کفیل ہونا، کا سہارا ہونا، کو روزی کا ذریعہ مہیا کرنا۔

آفَ ـُ أوْفًا ه: کو نقصان و ضرر پہنچانا، کو فاسد کرنا۔

الأُوَار ج اُوُر: گرمی، پیاس، دھواں الأوارة: چولہا۔

الأورانيوم: یورینیم (ایک تابکار دھات جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے)۔

الأوريوميسين (طب): بعض بیماریوں جیسے پیچس کے علاج میں استعمال ہونے والی دوا۔

أوربّا: یورپ (Europe) اوربی: یورپین

اورشلیم: jerusalem بیت المقدس۔ (اسرائیل کا ایک شہر)

اورطة: أُرطة ج أُرط: بٹالین (battalion)

أورغواي: یوراگوے Uruguay (ایک شہر کا نام)

أورکسترا: سازندوں کا طائفہ آرکسٹرا۔ سرودگاہ (orchestra)۔

اورنیك ج اورنیكات: نمونہ، ماڈل، فارم، بلینک۔

أوروبا و اوروبا: یورپ Europe اوروبی: یورپین۔

أورُوجُواي: یوروگوے Uruguay

الأوزة: ج اوز (ح) بط: (فارسی لفظ کاوزه): وہ جگہ جہاں بطخیں بکثرت ہوں۔

أوزعلی: کا مذاق اڑانا، کا منہ چڑانا، سے مذاق کرنا، کو چھیڑنا الأوز: ہنس۔

آسَ يَئُوسُ أوْسًا و إياسًا: دینا، معاوضہ دینا استآسَه: سے بخششیں چاہنا، مدد کا خواستگار ہونا، کی صحبت کا خواہاں ہونا۔ الأوس: عطیہ، بخشش۔

الآس واحده آسة (ن): آس جس کے پتے بہت سبز اور تروتازہ ہوتے ہیں۔ پھول سفید اور پھل چھوٹے سفید وسیاہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ اسے الریحان بھی کہا جاتا ہے۔ بیج کو عام لوگ حنبلاس کے نام سے جانتے ہیں۔ حَبُّ الآس: (مورد کے دانے، آس کے دانے) اس سے الآس البری (جنگلی آس) ہے۔

الأوس: بھیڑیا۔

الأوسميوم (ك): پلاٹینم قسم کی ایک سخت سفید رنگ کی دھات جو سب معروف دھاتوں سے بھاری ہوتی ہے۔ (osmium)

اوستراليا: آسٹریلیا (Australia) براعظم و ملک)

اوستريا: Austria آسٹریا (ایک ملک کا نام)

اوسلو: Oslo ایک شہر کا نام

أوسطی: دیکھو اسطی۔

الأوش: نماز۔ وعظ

کوخراب کرنا۔ آفتْ اَوْفًا و آفَۃً و اُوُوفًا البلادَ: شہروں کا آفت زدہ ہونا۔ الآفۃ جمع آفـات: آفت، مصیبت، فساد لانے والی چیز۔

○ آفۃ جمع آفات: نقصان، تکلیف، ضرر، ایذا، دکھ، زخم، چوٹ، گھاٹا، آسیب، تباہی، بربادی، زوال، برائی، گناہ، معصیت، وباء، وبائی مرض، طاعون، پلیگ، بلا، قہرالٰہی، پودوں کی وباء، مَؤُوْف: وباءزدہ۔

○ اوُفـرَول: لبادہ جو عورتیں کام کرتے وقت پہن لیتی ہیں، اوُوَر آل: Overalls

آق: ۱۔ آقَ ـُـ اَوْقًا علیہ: پرنحوست اور مصیبت لانا۔ اَوَّقَـــہُ: پرمشقت ومصیبت ڈالنا، کا کھانا کم کرنا۔ الأَوْق: بوجھ (کہاجاتا ہے: القی عَلَی اَوْقَۃٌ: اس نے مجھ پر بوجھ ڈالا) نحوست (کہاجاتا ہے: ہو اَوْقٌ: وہ منحوس ہے)۔

۲۔ آقَ ـ اَوْقًا علیہ: کو اوپر سے جھانکنا، پر جھکنا۔

۳۔ الأُوقِیَّۃ جمع اَواقی و اَواقِ: نصف رطل کا چھٹا حصہ۔ جو چوتھائی چھٹانک ہوتا ہے۔

۴۔ الاوقیانوس: بحرمحیط جو یورپ اور امریکہ کے درمیان واقع ہے۔ (یونانی لفظ)

○ اُوقَۃ = اَقَّۃ

○ اُوَیْقَات: (اوقات کی تصغیر) تھوڑے اوقات، اچھے اوقات۔

○ اُوقِیَۃ جمع اُوقِیات: وزن کا پیمانہ۔ اونس (ounce)

○ اوکازیُون: کم قیمت پر فروخت، خصوصی فروخت۔

○ اوکرانیا: یوکرین Ukraine

اوک: اوکـالیبتُـوس (ن): ایک قسم کا درخت جسے شجرہ الکینا بھی کہتے ہیں، اونچائی سومیٹر تک بھی پہنچ سکتی ہے جلد بڑھتا ہے اور سڑکوں کے کنارے اگایا جاتا ہے۔

۲۔ الأوکسیجین (ک): دیکھو الاکسیجین۔

اُوکْسِید: دیکھو الأکسید۔

○ آکسیجن: آکسیجن Oxygen

اُکْسِید جمع اکاسید: اوکسائڈ Oxide

آل: ۱۔ آلَ ـــُـ اَوْلًا و مَآلًا الیہ: کی طرف لوٹنا۔ اوَّلَہُ الیہ: کوکسی کی طرف واپس کرنا، لوٹانا۔ المَآل: واپس ہونے کی جگہ۔

۲۔ اَوَّلَ الکلامَ: کی تفسیر کرنا، تشریح کرنا، وضاحت کرنا، کا مطلب بیان کرنا، سے مراد لینا، کی توجیہ کرنا، کو واضح کرنا، ـــ الرؤیا: خواب کی تعبیر کرنا۔ تأَوَّلَ الکلامَ: بمعنی اَوَّلَ الکلامَ ـــ فیہ الخیرَ: میں بھلائی معلوم کرنا۔ المَآل: نتیجہ۔ مَآلُ الکلام: کلام کا مفاد معنی۔ الآل: (ف): سراب، وہ بخارات جو چلچلاتی دھوپ میں آسمان اور زمین کے مابین پانی کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔

۳۔ آلَ ـُـ اِیالًا و اَوْلًا الرعیۃَ: رعیت کا انتظام کرنا، سیاست دانی کرنا۔ ـــ اَوْلًا و ایالًا و اِیالۃً علی القوم: قوم پر حاکم ہونا اِئتـالَ المالَ: مال کا انتظام کرنا، کی اصلاح کرنا آلُ الـرجـلِ: آدمی کے اہل و عیال۔ آل کا لفظ صرف شرفاء کے لئے مستعمل ہے۔ چنانچہ آل الاسکاف نہیں کہا جاتا۔ (اسکاف موچی کو کہا جاتا ہے)۔ آلُ الجبل: پہاڑ کے اطراف الإیالۃ جمع ایالات: سیاست۔ صوبہ۔

۴۔ الآلۃ جمع آل و آلات: اوزار، حالت، تختی۔ الآلۃ الـحـدباء: تابوت۔ الآلاتی: سازندہ مشین مین (Machine man)

○ آلَ ـُـ اَوْلًا و مَآلًا الی: کی طرف واپس آنا، رجوع کرنا، واپس جانا، لوٹنا، سے منسوب ہونا، سے منسوب ہونے کے قابل ہونا۔ سے نکلنا، مشتق ہونا، پر منتج ہونا، کا باعث ہونا یا بننا، کی طرف میلان ہونا، کا انجام ہونا، کا نتیجہ ہونا، آخر کار کے پاس آنا یا جانا، کے ہاتھوں میں پہنچنا، آلَ الامـرُ الـی: معاملہ کا مدعا یا مطلب یہ تھا کہ۔ آلَ بـہ المطافُ الی: وہ آخر کار اس نقطہ تک پہنچا جہاں۔ اَوَّلَ ہ: کی تشریح کرنا، توضیح کرنا، توجیہ کرنا، کو واضح کرنا۔ آل: کنبہ، خاندان، رشتہ دار، اعزہ، اقارب، بھائی بند، برادری، ساتھی، ہم ذوق و ہم مشرب دوست، کٹے یا کٹر حامی، لوگ سُـراب،

آلَۃ جمع آلات: آلہ، عام استعمال کی چیز، اوزار، ہتھیار، مشین، سامان، تجرباتی آلات، تدبیر، سکیم کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ڈھنگ، وسیلہ آلات الـحـس: حسیاتی اعضاء، آلۃٌ بُـخـاریۃٌ: بھاپ سے چلنے والا انجن steam engine آلۃُ الجَرِّ: ٹریکٹر (Tractor) آلۃ جَھَنَّمِیَّۃ: جہنمی مشین inferna machine آلۃٌ حـربیۃٌ: جنگی آلہ آلۃ الـتـحـریک: موٹرانجن۔ آلۃٌ حـاسبۃٌ: حساب کرنے والی مشین Calculating Machine آلۃُ الحیاکۃ: پاورلوم، مشینی کرگھا، برقی کرگھا۔ (Power loom) آلۃ الـخیـاطۃ: سلائی مشین Sewing Machine آلۃ رادیـو: ریڈیو آلۃ رافـعۃ: کرین Crane، بھاری بوجھ اٹھانے کی کل، پمپ pump آلۃُ التَّسْخِین یا آلۃ مُسَخِّنۃ: ہیٹر Heater آلۃ الـتـصـویـر: کیمرا (Photographic) camera آلۃ الـطـبـاعۃ: پرنٹنگ پریس آلۃ الـتـغـسیل: واشنگ مشین washing machine آلۃ الـتـفـریخ: بچے نکالنے کا آلہ (incubator) آلۃُ الإستقبال: ریسیور یا ریسیونگ سیٹ Rerceiver, receiving set آلۃ مُقَطِّرۃ: قرنبیق، بھپکا distilling, still apparatus آلۃ کاتبۃ یا آلۃ الکتابۃ: ٹائپ رائٹر (typewriter) آلۃُ لَعِبِ القِمار: سلوٹ مشین Slot machine (سکہ ڈال کر جوئے کا ٹکٹ نکالنے والی مشین) آلۃ مُوسیقیۃ: آلہ موسیقی، آلہ طرب musical instrument آلۃُ التنبیہ: الارم، سائرن (Siren)، (کار وغیرہ کا) ہارن (بھونپو) آلۃٌ صَمّاءُ: (مجازا) آلہ کار، دست پروردہ، مرغ دست آموز، کٹ پتلی، کٹھ پتلی۔ آلِی: مشینی Mechanical، کل دار mechanized، موٹرایا ہوا Motorized آلے کا، آلے کے متعلق، ساز کی (موسیقی) instrumental، عضوی، اعضاء کے متعلق، عضویاتی organic مِحْراثٌ آلِیّ: موٹر سے چلنے والا ہل (motor plow) الـقـوات الآلیۃ: موٹروں سے آراستہ فوجی حَرَکۃٌ آلِیۃ: مشینی حرکت۔ آلِیۃ: مکینکس (mechanics) آلاتی جمع آلاتیۃ: موسیقار، گویا، مطرب، نغمہ گر۔

اول: ۱۔ الاَوَّل جمع اَوائِل و اَوالِ و اَوَّلُون م اُولی جمع اُوَل و اُولَیات: پہلا، یہ صفت ہو تو غیر منصرف ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں: لقیتُہ عامًا اوّلَ: میں اس سے پہلے سال ملا تھا۔ دوسری صورتوں میں منصرف ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں۔ ما رأیتُ لہ اولًا و لا آخـــرًا: میں نے اس کا پہلا اور پچھلا نہیں دیکھا۔ لقیتُہ اولَ ذی یَدَین: بوقت صبح میں سب سے پہلے اسے ملا۔ اعـمـلُ کذا اوّلَ ذی یَدَین: یہ کام میں سب پہلے کرتا ہوں۔ اوّلیّۃ (ہ): بنیادی سچائی جسے کسی دلیل کی احتیاج نہ ہو جیسے الکُلُّ اکبرُ الجزء: کل جزء سے بڑا ہوتا ہے۔ اولیات تمام علوم میں مشترک ہوتے ہیں جن میں مقادیر کا مطالعہ کیا جاتا ہو ان کو بکیہیۃ بھی کہا جاتا ہے۔

۲۔ اُولاءِ و اُولَی: جمع قریب کیلئے اسم اشارہ، اس میں مذکر اور مونث برابر ہیں۔ اُولاء: کے شروع میں ہائے تنبیہ داخل کرکے کہاجاتا ہے۔ ھـؤلاء: اور آخر میں "ک" خطاب لاحق کرکے اُولـئـک کہاجاتا ہے۔ اُولاء اور اُولَی الذین کے معنی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں۔

۳۔ اُولُو جمع ہے اور ذو کے معنی میں یعنی اصحاب کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا واحد ذو صاحب کا معنی دیتا ہے۔

مونث اُوْلات ہے جس کا واحد ذات ہے۔ آپ کہتے ہیں: جائنی اُولُو العلم و اُولاتُ الفضل: میرے پاس علم والے اور فضل والیاں آئیں۔

أَوَّل مونث اُولَی جمع اوَّلون و اَوائِل: پہلا، اگلا، سب سے اگلا، نمایاں، خاص الخاص، صفت اول میں، پہلے درجے میں، سب سے اول، بہت یا سب سے زیادہ یا سب سے بڑھ کر یا نہایت یا غائت درجہ اہم، اعلی، بڑا، عمدہ، صدر، بڑا اہم، پیش پیش، سربرآوردہ عظیم، فراخ، کشادہ، اہم، ضروری، مقدم، سب سے اہم، مرکزی، حقیقی، اصلی، پہلا حصہ، آغاز، ابتداء، پہلے، پیشتر، پیشین، سابق، متذکرہ بالا، پہلے بیان کیا ہوا۔ الانسـانُ الاوَّلُ: ابتدائی انسان۔ طبیبٌ اوّلُ: طبیب اعلی (physician -in -chief) الأوَّلُـون والاَوائِـل: باپ دادا، آباواجداد، گزشتہ نسلیں، اسلاف، الأوائِـل الشهـر: کسی مہینہ کے پہلے دس دن، مہینہ کا شروع لِأَوَّلِ مَرَّةٍ یا لـلمرة الأُولَى: پہلی بار، پہلی مرتبہ، مِن اوّلِهِ و من اوائلهِ: اس کی شروعات سے۔ اس کی ابتداء ہی سے، شروع ہی سے مِن أَوَّلِـهِ اِلي آخِرِهِ شروع سے اخیر تک، الف سے یے تک۔ اوّل الامرِ: شروع میں۔ الاوّل فلاوّل: ہر بار پہلا دستیاب أَوَّل مَا: جس لمحے، جبھی، کے شروع ہی میں اکثر مِن الأوّل: پہلے سے زیادہ أَوَّلًا پہلے، اوّلاً سب سے پہلے، شروع میں اَوّلاً بـاوّل أوَّلاً فـاوّلاً: بتدریج، یکے بعد دیگرے، ایک ایک کرکے، تھوڑی دیر میں، کچھ دیر بعد، جلدی۔ اوّلاً و أخِيـرًا و اَوَّلاً و آخـرًا: پہلے اور آخر میں، سب سے پہلے اور سب سے آخر، سب ملا کر، کل، فی الجملہ، بحثیت مجموعی، صرف اور صرف، محض، نرا۔ اوّلِـی: اول نمبر، پہلا، سب سے اچھا، بہترین، اصلی، ابتدائی، پہلا، اہم، سب سے بڑا۔ اوّلِیٌّ بسیط، جوہری، عنصری، بنیادی، مرکزی، ضروری، اساسی، اول، اعلی، بڑا، خاص، عمدہ، صدر، سربرآوردہ، ابتدائی، قدیم، قدیمی، ابتدائی ادوار کا، اپنی اصلی شان والا، بدعتوں سے خالی، مدرسة اوّلية: ابتدائی مدرسہ، گریڈ سکول، مواد اوّلية: خام مال، خام سامان عددٌ اوّلي: مفرد عدد فـاتـورة الـوَّلية: رسمی بیجک جس میں بھیجے گئے سامان کی تفصیل ہوتی ہے۔ اور عموماً گاہک کو سامان سے پہلے بھیجا جاتا ہے (pro forma invoice) اَوّلِيّة جمع اوّلِيـات: بنیادی سچائی، بدیہیات میں سے ایک بدیہی، ابتدائی لازمی، جزء، لازمی جز، جزو ترکیب، عنصر، پیش روی، برتری، تقدیم، سبقت، ترجیح، فوقیت، اوّلیت، تقدم، ضروری ہونا۔

اَيِّل و اُيَّل جمع اَيـائِل: ہرن۔ اِيـالة جمع اِيـالات: صوبہ، شاہ کی قائمقامی (کا منصب یا عرصہ وغیرہ) نیابت شاہی، منتظمین سلطنت، اَيْلُولَة: دستاویزات، ملکیت، مَآل: انجام، انتہاء، حد، نتیجہ، ماحصل، حاصل، خاتمہ، اختتام، معلول۔ فی الحـال و فی المَآل: اب اور آئندہ تاوِيل جمع تاويلات: تشریح، توضیح، تعبیر، تصریح، بیان، مطلب، مفہوم۔

اولاء، اولـئك و اولائك: یہ، وہ (ذا و ذلك کی جمع)

اولمبی، اولمپک olympic الالعاب الاولمبية: اولمپک کھیلیں اولـمبياد: اولمپک کھیلوں کے انعقاد کا موقع۔

اولو: (ذو کی جمع): مالکان، قابضان، لوگ، اولوالامر: حکام طاقت ور رہنما۔ اولـو الحـل والعقد: حکام اولواشان: ذمہ دار لوگ۔

آم ۱۔ آمَ ـُ اَوْمًا: کو شدت کی پیاس لگنا اوَّمَهُ: کو پیاسا کرنا۔ الأُوام: پیاس۔

۲۔ آمَ ـُ أَوْمًا و اِيامًا و اُيامًا النحلَ و عليها: چھتے کے نیچے دھواں کرکے شہد کی مکھیوں کو اڑانا تاکہ شہد حاصل کیا جائے۔ الأُوام: دوران سر اِلإِيـام جمع اُيُم: دھواں۔

۳۔ اَوْمنيبُس: اومنی بس، بس۔

اوم: برقی مزاحمت کی اکائی۔

آن ۱۔ آنَ ـُ اَوْنًا علی نفسہ: اپنی جان پر نرمی کرنا۔ الأَوْن: نرمی، آرام، سکون۔

۲۔ اوَّنَ و تـاوَّنَ الرجلُ: سنجیدہ و پروقار ہونا الأَوْن: باوقار رفتار سے چلنا۔ الآن و الأَوان جمع آوِنَة: وقت۔ الآنَ: ابھی، اس وقت۔ آناء اللیل: رات کی گھڑیاں۔

آن: وقت الآنَ: اب فی آنا ور فـی آنٍ واحدٍ: اسی وقت، بیک وقت، ساتھ ہی، مِن آنٍ اِلَى آخَر: وقتاً فوقتاً۔ مابین آن و آخَرَ: اور آنـا بعد آن: بعض اوقات، کبھی کبھی، کبھی کبھار، آنًـا فَآنًا: بتدریج، تھوڑی دیر میں، کچھ دیر بعد، جلدی، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ آنًـا ...... و آوِنَةً: بعض اوقات، بعض اوقات، کبھی کبھی۔ قبـلَ الآن: پہلے، پہلے زمانے میں۔ للآن اور حتّی الآن: اب تک۔ بعدَ الآن: اب سے، آج سے، آج کے بعد، آئندہ، مستقبل میں۔ من الآن فصاعدا: بمعنی بعدا الآن آنئذٍ اس دن، اس وقت، تب۔ [illegible] اس وقت، تب۔

اَوْن: سکون، سکوت، خاموشی، ٹھہراؤ، وقار، متانت، نرمی، شائستگی، شرافت، حلم، بردباری، اَوَان جمع آوِنَة: وقت، قبلَ اَوَانِهِ: قبل از وقت۔ فـی اَوَانِهِ: صحیح وقت پر، بروقت، برمحل۔ فـی غیـر اوانِهِ: غلط وقت پر، قبل از وقت، بے موقع، بے محل۔ بیـن الآوِنة: وقتاً فوقتاً بیـن الآوِنةِ والاخـری یا آونةً بـعـد اخری: بعض اوقات۔ آونةً و اُخری: بعض اوقات۔ بعض اوقات۔ فاتَ الاوانُ: ضرورت سے زیادہ یا ناقابل یقین حد تک دیر ہو چکی ہے۔ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ آنَ الاوانُ: وقت آگیا ہے۔ — لِ: یہ کچھ کرنے کا وقت ہے۔

اونباشی: نائک corporal۔

آہ: آہَ ـُ اَوْهًا و أَوَّهَ و تَـاوَّهَ: آہ کرنا، دردمند ہونا۔ الأَوَّاه: بہت آہیں بھرنے والا۔ الآهَة آہ۔ لال بخار

آہَ ـُ اوْهًا و اَوَّهَ: کراہنا، ہائے ہائے کرنا، آہ و زاری کرنا، آہیں بھرنا، واویلا کرنا۔ تَـأَوَّهَ: کراہنا، ہائے ہائے کرنا، آہ و زاری کرنا، آہیں بھرنا، واویلا کرنا۔ — لِ: کیلئے آہیں بھرنا۔ آہ کہنا۔ اَوْه: اف، ہائے ہائے، توبہ، آهِ و آهًـا و اواهِ: اف، ہائے، ارے، توبہ، آهَة جمع آهـات: آہ، کراہنا، تحسین و مدح کی آہیں۔ وجد اور چیخ و پکار، تَـأَوُّه: کراہنا، آہ و زاری کرنا، آہیں بھرنا، تحسینی کلمات، دردناک آواز، کراہ، لمبی دردناک چیخ۔

اوی ۱۔ أَوَى ـِ اَوْيَةً و اِيَّةً مَـأْوِيَةً و مَأْوَاةً له: پر نرم دل ہونا، ترس کھانا، رحم کرنا۔ اِئْتَوَى و اتَّوَى له: پر ترس کھانا۔

۲۔ أَوَى ـِ أُوِيًّا و اِوَاءً البیت و اِلی البیت: گھر میں اترنا، گھر میں ٹھکانا لینا۔ آوَى و أَوَّى هُ البیـتَ و اِلی البیت: کو گھر میں اتارنا۔ تَـآوَت و تَـأَوَّت الطیورُ: پرندوں کا اکٹھا ہونا۔ اِئْتَوَى و اِتَّوَى: بمعنی أَوَى۔ الماوَى و المَأْوَاة: جائے پناہ۔

۳۔ الآية جمع آيٌ و آيات: علامت۔ ـ من الکتاب: قرآن کریم کی ایک آیت، عبرت۔ آيةُ الرجل: آدمی کا وجود، کہا جاتا ہے۔ خرج القوم بآيتهم: قوم پوری جماعت لے کر نکلی اور اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔

۴۔ ابن آوَى جمع بنـاتُ آوَى (ح): گیدڑ۔ بعض اس کی کنیت ابوزہرہ بتاتے ہیں۔

اوَى ـِ اِلی: کسی جگہ پناہ ڈھونڈنا، بستر پر جانا، کسی جگہ جانا۔ ـ ہ / ہ کو پناہ دینا، کی رہائش کا انتظام کرنا، کو کمرہ دینا، کو جگہ دینا، ٹھہرانا، کے قیام کا انتظام کرنا، کو رکھنا، کا بطور مہمان استقبال کرنا، آوَاہ کو پناہ دینا، کی

رہائش کا انتظام کرنا، کو کمرہ دینا، کو جگہ دینا، ٹھہرانا، کے قیام کا انتظام کرنا، کا بطور مہمان استقبال کرنا۔ آوی الی: کسی جگہ پناہ تلاش کرنا، کسی جگہ جانا۔ ۔ ہ: کو پناہ دینا، کی رہائش کا انتظام کرنا، کو رکھنا، کے قیام کا انتظام کرنا، اِیواء جگہ، جائے سکونت، مہمان خانہ، شب باشی کی جگہ، رات کاٹنے کی جگہ، پناہ دینا، جگہ دینا، مَاوٰی جمع مآوٍ جائے پناہ، پناہ گاہ، پناہ، مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، جائے آرام، گھر، مکان، رہنے کی جگہ، آیة جمع آی و آیات: علامت، نشانی، معجزہ، اعجوبہ، حیرت انگیز شے یا بات، نمونہ، مثال، مثل، کمال، شاہکار، قرآنی آیت۔ (آی الذکر الحکیم: قرآن حکیم کی آیات)، کسی کتاب کی عبارت، جو کہا جائے، قول مقولہ، لفظ، آیات: (محبت، شکرگزاری وغیرہ کی) انتہائی سنجیدہ یقین دہانیاں۔

ای ا۔ اَی: حرف نداء جیسے اَیْ زیدُ: اے زید! حرف تفسیر بمعنی یعنی رایتُ غضنفراً اَیْ اسداً: میں نے غضنفر یعنی شیر دیکھا۔

☺ اِیْ: ہاں (واللہ کے ساتھ): ہاں، بے شک، ہاں، اللہ کی قسم)۔

۳۔ اَیّ: شرطیہ ہے دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ جیسے: اَیًّا تضرِبْ اضرِبْ: جس کو تو مارے گا میں ماروں گا۔

۲۔ استفہام کے لئے جیسے: اَیُّکُمْ اتی؟: تم میں سے کون آیا؟

۳۔ اسم موصول کے طور پر جیسے: سَلِّمْ عَلٰی اَیُّھُمْ افضل: جوان میں افضل ہے اس کو سلام کرو۔

۴۔ کمال کے معنی پر دلالت کرنے کیلئے جیسے: زیدٌ رجلٌ اَیُّ رجلٍ: زید کامل مرد ہے۔ (مردانہ صفات میں کامل ہے)۔

۵۔ منادی معرف باللام کے شروع میں تنبیہ کیلئے جیسے یا ایھا الرجُلُ و یاایتھا المراۃُ (اے آدمی! اے عورت۔ اس کے بعد اگر اسم جامد ہو تو مثال کے طور پر اس کا بدل ہوتا ہے اور اگر مشتق ہو تو اس کی صفت ہوتا ہے جیسے یا ایھا الفاضل: اے مرد فاضل!

ایا: اِیَّا: ضمیر منفصل منصوب ہے تمام ضمائر نصب ایسے حروف کے ذریعے متصل ہوتے ہیں جن سے صاحب ضمیر کی تمیز مراد ہو جیسے: اِیَّانا و اِیّاکم و اِیّاہُ الخ: ہم سے ہی، تم سے ہی، اس سے ہے۔ اِیّاکَ نعبدُ: ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں۔

۲۔ اَیَا: حرف ندا۔ منادی بعید کیلئے آتا ہے اور کبھی اس کی ہمزہ کو ھ سے بدل کر ھَیَا کہا جاتا ہے۔

۳۔ اَیّار: شمسی سال کا پانچواں مہینہ یعنی مئی عربی میں اسے مَایو بھی کہتے ہیں۔ سریانی لفظ ہے۔

☺ اَیّ مونث اَیَّۃ: جو، جونسا، کونسا؟ کیا؟ کیسا، کس قسم کا؟ جو کوئی، جو بھی، جو بھی ہو، جو کوئی، کوئی بھی ہو، کوئی، ہر ایک کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ (نفی کے ساتھ) نہ، نہیں۔ اَیُّما: جو بھی، جو کچھ بھی، کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اَیًّا کان، اَیَّۃً کانت: جو کوئی بھی وہ (مرد، عورت) ہے، کون یا کونسا (مرد یا عورت) ہی کیوں نہ ہو، اَیُّ مَن کان: جو بھی ہو کوئی بھی ہو، جو کوئی، جو بھی، چاہے کوئی بھی۔ علی اَیِّ حال: بہرصورت، بہرکیف، بہرحال، ہر صورت میں، کچھ بھی کیوں نہ ہو، اَیُّ واحدٍ: کوئی ایک اِنّ لہٗ شأنًا اَیَّ شانٍ: یہ اہم ہے اور کتنا اہم یعنی یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اُعْجِبَ بِهِ اَیُّما إعْجاب: اس نے اس کی کتنی زیادہ تعریف کی، اس نے اس کی بہت ہی تعریف کی۔ اَقْبَلَ علیه اَیّما اقبال: اس نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی۔

☺ اِیّاکَ اَن: خیال رکھنا کہ نہ، محتاط رہنا کہ نہ، اِیّاکَ و اِیاکَ مِن: سے بچنا۔

ایب: اِیْبیکا: (ن طب) قے کی دواء جو جنوبی امریکہ کے ایک پودے کی جڑوں سے بنائی جاتی ہے۔

آد: آدَ یَئِیدُ أیْدًا و آدًا: مضبوط ہونا، سخت ہونا۔ اَیَّدَ تَأْیِیْدًا و آیَدَ مُؤَایَدَۃً: کو قوی کرنا، ثابت کرنا، صفت: مُؤَیِّد و مُؤْیِد صفت مفعولی: مُؤَیَّد و مُؤْیَد۔ تَأَیَّدَ: قوی ہونا۔ الآدُ و الأَیْدُ: قوت، الإیاد: ہر وہ شے جس سے کوئی چیز قوت پکڑے۔ (إیادُ الجیش: فوج کا دایاں اور بایاں بازو۔ میمنہ، میسرہ) محفوظ پہاڑ، الأَیِّدُ قوی۔

۲۔ الإیاد: پردہ، پناہ، ہوا۔ المُؤْیِدُ جمع مآوِدُ و مَوَائِد: مصیبت، بڑا معاملہ۔

۳۔ اِیدِیُولُوجیا: علم تصورات، نظریہ، نظریات، نظریاتی بنیاد، نظریاتی نظام (idealogy)۔

☺ اَیَّدَہ / ہ (شخص، دعوی، تمنا وغیرہ) کی حمایت کرنا، مدد کرنا، کی تائید کرنا، کی ہمت بڑھانا، کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ـــــ ہ (خبر فیصلہ وغیرہ کی) تصدیق کرنا، توثیق کرنا، تَأَیَّدَ حمایت کیا جانا، مدد کیا جانا، تائید کیا جانا، حوصلہ افزائی کیا جانا، تصدیق کیا جانا، توثیق کیا جانا، تأیید تصدیق، توثیق، امداد، اعانت، مدد، تائید و حمایت، سہارا، پشت پناہی تأییدًا لِ کے حق میں in support of

اَیدرُوجین: ہائڈروجن hydrogen قُنبُلۃٌ اَیدرُوجِینیۃ ہائڈروجن بم۔

اُیَر جمع اَیُور: عضو تناسل، آلت

☺ ایران: ایران، فارس (ملک کا نام) ایرانی: ایرانی فارسی (جمع ایرانیون: ایرانی، اہل فارس)۔

☺ ایرلندا: آئرلینڈ Ireland (ایک ملک کا نام) ایرلندی: آئرش، آئرلینڈ کا باشندہ جمع ایرلندیون: آئرلینڈی، آئرش۔

☺ ایریال: ایریل۔ انٹینا aerial، antena

ایس: أَیِسَ یَیْأَسُ إیاسًا منه: سے ناامید ہونا صف: آیِس: أَیَّسَ و آیَسَ إیئاسًا ہ: کو ناامید کرنا۔ الآئِسة: پچاس یا پچپن سال سے زائد عمر کی عورت۔

☺ اَیِسَ ـــ إیاسًا من: کے بارے میں امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا، مایوس ہو جانا۔ اِیاس: ناامیدی، مایوسی، یاس، قنوط۔

☺ ایشرب: کمربند، پٹکا (فرانسیسی لفظ)

آض: آضَ یَئِیضُ أیضًا: ہونا، کہا جاتا ہے۔ آض سواد شعرہ بیاضًا: اس کے بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیلی ہو گئی۔ یعنی اس کے بال سفید ہو گئے۔ ـــــ لوٹنا، ایضاً: بھی۔ کہا جاتا ہے۔ فعلہ ایضاً: اس نے اس کو بھی کیا۔ ایضاً: (مفعول مطلق ہونے یا حال ہونے کی بنا پر منسوب ہے)۔

☺ آضَ ـ ایضاً الی: کی طرف لوٹنا، واپس آنا، رجوع کرنا، کچھ ہو جانا، ایضاً بھی، اور، مزید، نیز، اسی انداز سے، اسی طرح، یکساں، برابر، پھر، پھر سے، دوبارہ، مزید برآں، علاوہ ازیں۔

☺ ایطالیا اٹلی Italy (ملک کا نام) ایطالی: اٹلی کا اٹلی سے متعلق جمع ایطالیون اٹلی کا باشندہ۔

ایق: الایقونة: مجسمہ، تپچو، اس کے مقابل عربی لفظ النصمة ہے۔

☺ اِیقُونة و اِیقُونِیة جمع ایقونات: بت، مورتی، شبیہ، مجسمہ، بزرگوں کی تصویر جو دیواروں پر بنائی جائے (مسیحیت میں) icon

ایک: اَیِکَ ـــ اَیَکًا و استَأْیَکَ الشجرُ: درخت کا گنجان اور گھنا ہونا۔ الأَیْكُ (ن) گنجان درخت واحد اَیکة۔

☺ ایک (واحد ایکۃ) درختوں کا جھنڈ، گنجان، جھاڑیاں، جنگل جھاڑی، جنگل، بن جھاڑ، جھنکار۔

ایل ا۔ اِیل: عبرانی زبان میں اللہ تعالی کا نام اس کا معنی قوی و قدیر ہے۔

۲۔ اِیلَنطُس (ن): ایک تیزی سے بڑھنے والا درخت جس کی لمبائی بیس میٹر تک جا سکتی ہے۔ اس کے پتے چوڑے اور پھولوں کی بو ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔

۳۔ الأَیِّل و الأُیَّلُ والإِیَّل جمع ایَائِل (ح): بارہ سنگا۔

۴۔ ایلول: شمسی سال کا نواں مہینہ، ستمبر۔

○ ایلولة: ملکیت کی دستاویزات

آم: آمَ یَئِیمُ أَیْمَةً و اُیُومًا وَایْمًا الرجلُ من زوجته او المرأة من زوجها: مرد کا رنڈوا اور عورت کا رانڈ یا بیوہ ہو جانا صفت أَیِّم جمع ایَائِم و أَیَامی و آیِمُون و أَیِّمَات۔ أَیَّمَهُ: کو رنڈوا کرنا۔ تأَیَّمَ: عرصہ تک غیر شادی رہنا۔ المُؤْیِمَة من النساء: امیر عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ مَأْیَمَة: کہا جاتا ہے الحرب مَأْیَمَةٌ مُیْتِمَةٌ: جنگ مردوں کو قتل، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانے والی ہے۔

۲۔ الأَیْم جمع اُیُوم: سانپ، ازدھا، ایْمُ اللّٰه: خدا کی قسم۔ الآمَة: عیب، نقص، ذلت۔

○ آمَتْ من زوجها: بیوہ ہونا یا ہو جانا۔ ایْمَة جمع اُیُوم و تَأَیُّم: بیوگی، رنڈاپا أَیِّم جمع ایَائِم و ایَامَی: رنڈوا، بیوہ۔

آن: ا۔ آنَ یَئِینُ ایْنًا: وقت کا آ جانا۔ کہا جاتا ہے۔ آن لَكَ ان تفعل کذا: تمہارے لئے ایسا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ الأَیْن: وقت، تھکن، ماندگی۔ الآن والأوان: دیکھو مادہ "اون"۔

۲۔ أَیَّان: اسم شرط دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، جیسے ایَّانَ تضرب اضربُ: جب تو مارے گا میں ماروں گا اسم استفہام بمعنی متی جیسے: ایان ترجع: تو کب واپس لوٹے گا۔

۳۔ أَیْنَ: اسم ظرف ہے کہاں کے معنی میں جیسے أَیْنَ یوسُفُ: یوسف کہاں ہے؟ معنی شرط کے ساتھ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے خواہ ما اس کے ساتھ ملحق ہو یا نہ ہو جیسے: أَیْنَ او أَیْنَمَا تقِفْ اَقِفْ: تو جہاں کھڑا ہو گا میں وہیں کھڑا ہوں گا۔

○ آنَ الاوَان: وقت آ گیا ہے۔ آنَ لَهُ اَنْ: یہ اس کے لئے وقت ہے کہ...... کرے۔ أَیْنَ: کہاں، کس جگہ؟ مِن این: کہاں سے اِلی أَیْنَ: کہاں، کسی جگہ تک، أَیْنَ نحنُ مِن: ہم...... سے ابھی تک کتنی دور ہیں، دنیا میں ہمیں...... سے جدا کرتی ہیں۔ أَیْنَ هذا من ذلك: یہ اس کے مقابلہ میں کیا ہے؟ اینما: جہاں، جہاں کہاں، جہاں کہیں بھی کہیں بھی أَیَّانَ: کب۔

○ أَیَّنَ ه: کو برقی ذروں میں تبدیل کرنا۔ تَأَیَّن: برقی ذروں میں تبدیل ہونا۔ اِیُون جمع اَیُونَات: مثبت یا منفی برقی چارج والا ذرہ۔ تأْیِین: برقی ذروں میں تبدیلی مُتَأَیِّن: ذروں میں تبدیل شدہ۔

ایه: اِیهِ: اسم فعل ہے کسی فعل یا بات کی زیادتی چاہنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اِیو: اِیهَ اِیو: ٹھیک، درست، صحیح، نہ بھی اب، خیر دیکھا جائے گا، اچھا، اچھا یوں ہی سہی، میں بھی دیکھ لوں گا، میں سمجھ لوں گا۔ اس سے۔

ایو: ا۔ اِیون (ك): مثبت یا منفی برقی چارج والا ذرہ یا ذرّے۔

۲۔ الایوان: جمع ایوانات و اَوَاوِین (ف ب): تین طرف سے دیواروں سے گھری ہوئی مکان کی کشادہ جگہ، محل، اسی سے ہے: ایوان کسریٰ۔

۳۔ أَیَا و أَیَاءُ و اَیَاةُ و اِیَاةُ الشمس: آفتاب کی روشنی اور اس کا حسن۔ البناتِ: نباتات کی رونق اور خوش منظری۔ اِیَاة الشمس: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔

○ اِیْوَان جمع اِیوَانات: نہان خانہ جیسے بیٹھک، جس کا فرش اونچا ہوتا ہے اور بڑے کمرے یا صحن کی طرف مسقف راستہ کے ذریعہ کھلتا ہے۔

ب

ب البـــاء۔ حروف تہجی کا دوسرا حرف اور ابجد میں اس کا نمبر ۲ ہے۔ یہ حرف جر اور کئی معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

(۱) الصاق: جیسے: امسکت بالغلام: میں نے لڑکے کو پکڑ لیا۔

(۲) الاستعانة: جیسے: کتبت بالقلم: میں نے قلم سے لکھا۔

(۳) المصاحبة: جیسے: اذهب بسلام: سلامتی کے ساتھ جا۔

(۴) الظرفية: جیسے: سار بالليل: وہ رات کے وقت چلا۔

(۵) البدل: جیسے: باع الكفر بالايمان: اس نے ایمان کے بدلے کفر لیا۔

(۶) التعدية: جیسے: ذهبت به إلى البيت: میں اس کو گھر لے گیا۔

(۷) القسم: جیسے: باللّٰه: خدا کی قسم۔

(۸) السببية: جیسے: لقيت بزيد الاهوالَ: میں زید کی وجہ سے خطرات میں پڑ گیا۔

(۹) التوکید: یہ زائد ہوتا ہے: کَانَ منفی کی خبر میں لفظاً یا معناً جیسے: ما كان بكاذب: وہ جھوٹا نہ تھا۔ لیس کی خبر میں جیسے: ليس زيد بقائم: زید کھڑا نہیں ہے۔ ما مشابه بليس کی خبر میں۔ جیسے: ما اللّٰه بغافل: اللہ غافل نہیں۔ اَفْعَل صیغہ تعجب کے فاعل پر جیسے۔ اكرم به، احسن بِهِ میں (وہ کیسا سخی ہے؟ وہ کتنا حسین ہے؟) لفظ نفس اور عین سے تاکید لانے میں جیسے: جاء الوزير بنفسه: وزیر خود آیا۔ کَفَى کے مفعول اور فاعل پر جب کہ تعدیہ بیک مفعول ہو۔ مفعول کی مثال: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع: ہر سنی ہوئی بات بیان کرنا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے۔ فاعل کی مثال جیسے: كفى باللّٰه شهيدا: اللہ سب سے بہتر گواہ ہے مبتداء پر سماعاً جیسے: بحسبك درهم بمعنى حسبك درهم: تمہارے لئے ایک درہم کافی ہے۔ اذا فجائیہ کے بعد قیاساً جیسے: خرجت فاذا بزيدٍ في الطريق: جب میں نکلا تو زید راستہ میں تھا۔ حال پر جس کا عامل منفی ہو جیسے: فما رجعت بخائب: میں ناکام نہیں لوٹا، کبھی عن، علی اور الی کے معنی میں بھی آتا ہے۔

بابا: ۱۔ بابا و بِهِ: کسی سے بابی انت وامي: (میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں) کہنا۔ —— الولدُ: بچہ کا بابا کہنا۔ البُؤبُؤُ: اصل، چیز کا درمیانی حصہ، آنکھ کی پتلی، عالم، خوش طبع سردار۔

۲۔ البابا جمع بابوات: بڑا عالم، گرجے کے سربراہ، بطرس ولی کا خلیفہ۔ (بچوں کی گفتگو میں) والد۔ نسبت کیلئے: بابوی۔

○ بابا: پوپ، پاپا، باپ، ڈیڈی۔ بابَوِی اور بَابَاوِی: پاپائی۔ بَابَوِيَّة: پاپائیت۔ بُؤبُؤ اور بُؤبُؤُ العين: آنکھ کی پتلی۔

باب: ۱۔ بَابِل: دریائے فرات کے کنارے نمرود کا بسایا ہوا شہر جو کلدانیوں کا دارالسلطنت تھا۔ البابلی: جادوگر۔ عُيُونٌ بابِلية: جادوگر آنکھیں۔

۲۔ البَابُوج جمع بوابيج: ایک قسم کا جوتا۔

۳۔ البَابُور: سٹیمر۔ اس کی عربی: باخِرة: دخانی کشتی یا جہاز۔

۴۔ البَابُونَج و البَابُونِج (ن): بابونہ، زرد پھول کی ایک بوٹی۔

○ بابِه: قدیم مصر کے مسیحیوں کا دوسرا مہینہ۔

○ بابُوج جمع بوَابِيج: سلیپر slipper۔

○ بابور جمع بابورات و بوَابِير = وابور: ریل کا انجن، انجن، دخانی کشتی یا جہاز۔

بات: ۱۔ بَاتُولُوجيا (طب): علم الامراض (pathology)۔

۲۔ باتيستا: کتان کا باریک کپڑا۔

○ باتولوجی: مرضیاتی pathological۔ باثُولُوجيا: علم الامراض (pathology)۔

باج: بَأَجَ ۔ بَأْجًا و بَاجَ: چیخنا۔ الباج: بھیڑ بکریوں کے مالک سے لیا جانے والا ٹیکس۔ قسم شکل۔ کہا جاتا ہے: الناس باج واحد: لوگ ایک روش یا طریقہ پر ہیں۔

باد: ۱۔ الباد زَهْر: زہر مہرہ۔ زہرباد۔

۲۔ البَاذِنْجان و البَاذنجان (ن): بینگن۔

بار: ۱۔ بَأَرَ ۔ بَأْرًا و اِبْتَأَرَ: کھودنا۔ أبْأَرَهَ: کیلئے کنواں بنانا۔ البِئْر جمع آباد و أَبْآر و بِئار و ابْؤُر (مونث): کنواں۔ البئرُ الأَرْتوازية: فواری کنواں، فوارہ نما کنواں، پھوار کنواں artesian well۔ البُؤْرَة: گڑھا۔

۲۔ بَأَرَ ۔ بَأْرًا و ابتأَرَ الشيءَ: کو چھپانا، کا ذخیرہ کرنا۔ —— الخيرَ: نیکی کو پوشیدہ طور پر کرنا۔ البُؤْرَ و البِئْرَة و البَئِيرَة: ذخیرہ۔

۳۔ البُؤْرَة: چولہا، آتشی شیشہ میں روشنی مرتکز کرنے کی جگہ۔

۴۔ البَارامون و البَيرَامون: عیسائیوں میں مذہبی تہوار سے پہلا دن۔

۵۔ البَارَة جمع بارَات: قرش کا چالیسواں حصہ۔

۶۔ البارَقْلِيط۔ عیسائیوں کے ہاں اس کا اطلاق روح القدس پر ہوتا ہے اور معنی جس سے مدد مطلب کی جائے ہے۔ روح القدس تثلیث کی رو سے تیسری الوہیاتی شخصیت۔

۷۔ البارْنامج والبَرْنامَج جمع برامج: بجٹ، آمد و خرچ کا حساب، حدیث کے راویوں اور اسناد کتب کی فہرست، پروگرام، منصوبہ، جدول، گوشوارہ۔

۸۔ البارُود (ك): بارود۔ البارُودَة جمع بوارِيد: بندوق، رائفل۔

۹۔ بارون: یورپی نواب (baron)۔

۱۰۔ الباریوم (ك): ایک قسم کی نقرئی دھات جس کے نمک، شیشہ سازی، وارنش اور راکٹ بنانے میں کام آتے ہیں۔

○ باراشوت: پیراشوٹ (parachute)

○ باراغوای: پیراگوے (Paraguay)۔

○ باربونی: بَرْبُونی وبربون: ایک قسم کی سرخ رنگ کی سمندری مچھلی۔

○ بارکیة: لکڑی کا فرش۔

○ باریس: پیرس (Paris) فرانس کا دارالسلطنت۔ باریسی: پیرس کا، پیرس کے متعلق، پیرس کا رہنے والا۔

باز: ۱۔ البَازُ جمع بِـزان و بُـؤُوز و أَبْوَز و الباز و البازی جمع أَبْواز و بَوَازٍ و بِیزان و بُزَاة (ح)۔ باز۔ البازدار جمع بَـزَادِرَة: باز یا کوئی اور شکاری پرندہ رکھنے والا۔

۲۔ البَازار: بازار۔ البازِرْكان: سوداگر، تاجر، خصوصاً کپڑے کا تاجر، عربی میں سُوقی کہتے ہیں۔

۳۔ البازهر: دیکھو بادزہر۔

○ بازَلْت: بسالت (basalt)، ایک سیاہ آتش فشاں چٹان۔ بازُوبَند: بازو بند۔ کڑا، کنگن، چوڑی، پہنچی۔

بأس: ۱۔ بَؤُسَ ـ بَأْسًا: مضبوط ہونا، بہادر ہونا صفت: بَئِس و بئیس۔ البَأس: شجاعت، قوت، طاقت۔ الباسا: جنگ، لڑائی۔

۲۔ بَئِسَ ـ بُؤْسًا و بَئِسًا و بُؤُوسًا و بُؤْسَى: بہت حاجتمند ہونا، مفلس ہونا صفت: بَائِس جمع بُؤَس۔ بِئْسَ: فعل ماضی جامد مذمت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے: بِئْسَ المصیر مصیرُ الاشرار: شر پسندوں کا انجام (بہت) برا ہے۔ یہ بِئْسَ الرجلُ کی اصل ہے۔ جسکے معنی ہے: اس مرد پر مفلسی آپڑی۔ ابْتَأَسَ: مصیبتوں میں گرفتار ہونا۔ ـــ ه: کو مصیبتوں میں مبتلا کرنا۔ تَبَاءَسَ: مفلسی کا بہانا کرنا، بتکلف مفلس بننا۔ ابْتَأَسَ: ناپسند کرنا، غمگین ہونا۔ اسی سے ہے: لاتَبْتَئِسْ بما كانوا يعملون: جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کرو اور نہ شکایت کرنا۔ البَأْسُ: خوف (کہا جاتا ہے: لاباس به: اس پر کوئی اعتراض نہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ لابأسَ علیك: تم پر کوئی خوف نہیں۔ لابَأْسَ فیه: اس میں کوئی نقصان نہیں۔ لابَأْسَ ان تعرفوا: تمہارے جاننے میں کوئی دشواری نہیں)۔ عذاب۔ البُؤْس جمع أَبْؤُس و البأساء و البُؤْسَى: شدت محتاجگی، مفلسی۔ بئس: بنات بئس: مصائب۔ بِئْسُ و بَیْئَسُ العذاب: سخت عذاب۔

۳۔ الباسلیق: بازو کی ایک رگ کا نام (یونانی لفظ)۔

○ بَئِسَ ـ بُؤْسًا: سخت غمزدہ ہونا، سخت بری حالت میں ہونا، مصیبت زدہ ہونا، بدنصیب ہونا، بد بخت ہونا۔ تَباءَسَ: سخت غربت کا حیلہ کرنا، مصیبت زدہ ہونے کا بہانہ کرنا۔ ابْتَأَسَ: غمگین ہونا، پریشان ہونا، رنجیدہ ہونا۔ بِئْسَ الرجلُ: کتنا برا آدمی۔ بَأْس: طاقت، ہمت، بہادری، دلیری، نقصان، ضرر، کمزوری، مضرت، غلطی۔ شدیدُ الباس: بہادر، دلیر، بے خوف باہمت، جرأت مند۔ لابـأس بـه: اس پر کوئی اعتراض نہیں، ناقابل اعتراض، برا نہیں، کسی حد تک اہم، قابل توجہ، معقول، قابل لحاظ، کثیر، معتد بہ۔ جیسے: کمیات لابَأْسَ بها: کافی یا بہت مقدار، تعداد۔ لابَأْسَ: پریشان نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لاباس ان: اسکی کوئی اہمیت نہیں کہ۔ أَيُّ بـأسٍ؟: اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا کیا؟ لیس علیه باسٌ من: کو سے کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ لاباسَ علیك: یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا خوفزدہ مت ہو۔ بنات بئس: مصیبتیں، آفتیں، نحوستیں۔ بُؤْس و بأساء بُؤُوس و بُؤْسَى جمع ابْؤُس: مصیبت، فلاس، کم بختی، بدنصیبی، خواری، شامت اعمال، کلفت۔ بئیس: بدنصیب، خستہ حال، مفلوک الحال، آفت زدہ۔ بائِس: بدنصیب، خستہ حال، مفلوک الحال، آفت زدہ۔

○ باستیل: رنگدار پنسل بنانے کا مسالہ، رنگین پنسلوں کی تصویر۔

○ باسیل: جراثیم۔

باش: باش: افسر، افسر اعلی chief۔ باش کاتب: ہیڈ کلرک۔ باشا: باشا، ایک ترکی لقب جو اعلی فوجی اور سول افسروں کو سلطنت عثمانیہ اور ماتحت اسلامی ممالک میں عطا کیا جاتا تھا۔

۲۔ الباشَق (ح): ایک چھوٹا شکاری پرندہ، جس کو باشہ کہتے ہیں۔

○ باش جاوِیش اور باشجاویش: ماسٹر سارجنٹ master sergeant۔ باش حکیم: باشحکیم: طبیب اعلی۔ باشریس: (بحریہ کا ایک رتبہ) چھوٹا افسر درجہ سوم کا۔ باشمفتی: مفتی اعظم۔ باشمُفَتّش: چیف انسپکٹر۔ باشمُهَندِس: چیف انجینئر۔ باشا جمع باشوات (باشاوات): پاشا (ترکی زبان میں)۔ بَاشِق و باشق جمع بَوَاشِق: باراک، شکرا۔

○ الباشِقرد: The Bashkirs

○ باشکیر (بشکیر) جمع بشاکر: تولیہ۔

○ باص جمع باصات: بس bus، آٹو بس autobus۔

باط: تَبَأَّطَ: لیٹنا، فارغ البال ہونا، مطمئن ہونا۔ ـــ عنه: سے اعراض کرنا، بے رغبت ہونا، کو ترک کرنا۔

○ باطون: کنکریٹ۔

○ باغَة: مسالہ celluloid۔ کچھوے کا خول۔

باق: بأقَه ـ بُؤُوقًا و انباق علیه الوبلُ: پر مصیبت و ہلاکی کا اچانک آجانا۔ الباقَة: گلدستہ۔

○ البـاکستـان: پاکستان (ایک ملک کا نام)۔ باکستانی: پاکستانی (صفت و اسم)۔

بال: ۱۔ بَؤُلَ ـ بُؤُولَةً و بَآلَةً: کمزور اور زرد ہونا صفت: بئیل۔

۲۔ البال (ح): وھیل مچھلی۔ البالةُ: کپڑوں کی گانٹھ۔ عربی میں اسے الابالة کہتے ہیں۔

۳۔ بالطو جمع بالطات: اوورکوٹ، ڈھیلا لبادہ، چغا، فرغل۔

۴۔ البالُّو: ناچ گھر، عربی میں اسے مرقص کہتے ہیں، رقص، محفل رقص۔

۵۔ بالیونتولوجیا: چٹانوں میں محفوظ ان پتھر بنے ہوئے حیوانات کے باقیات کا علم جن کی تاریخ سینکڑوں ملین سال قدیم ہے (یعنی جو کھربوں سال پہلے پائے جاتے تھے)۔

۶۔ البالون: غبارہ، گیند، غبارہ کو فصیح عربی میں منطاد کہتے ہیں۔

○ جُزُر البالیار: بیلرک جزیرے۔

○ بالیه: بیلے (ballet)، سنگت ناچ۔

بام البامیا (ن): بھنڈی۔

بان: ۱۔ البَان (ن) ایک درخت جس کے پتے لمبے پھول سفید ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک قسم کا تیل نکالا جاتا ہے واحد بانۃ ہے۔

۲۔ بانطلون جمع بانطلونات: پتلون، نیکر۔ اس کی عربی: سراویل ہے۔

○ بونس ایرس Buenos Aires ایک شہر کا نام۔

○ شَاشَة بانوراميّة: سینما سکوپ سکرین Cenemascope screet۔

باہ: بَأَهَ ۔ بَأْهًا سمجھنا۔ کہا جاتا ہے: مابأه للامر او بالامر: اس نے معاملہ کو نہیں سمجھا۔

باو: الباوباب (ن): گرم ممالک میں اگنے والا ایک درخت جس کا قطر ۸ میٹر اور محیط کا دائرہ ۲۴ میٹر تک ہوتا ہے۔ اس کی اصل استوائی افریقہ ہے۔

بای: ۱۔ بَأَى بَأَوْا علیھم لوگوں پر فخر کرنا، تکبر کرنا۔

۲۔ بَای: (ترکی لفظ ہے اور معنی صاحب ثروت یا گھر کا مالک ہے۔ ایشیا کے وسطی علاقوں میں سرکردہ لوگوں کے لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے)۔

○ بای مونث بایہ جمع بایات: بے خاندان کے ارکان کے ناموں کے بعد تیونس میں لقب کے طور پر لگایا جاتا تھا۔ جیسے حمید بے۔

○ دار البای: (سابق) تونس حکومت۔

بب: البَبّ: طریقہ۔

ببر: اَلبَبْر و البَبر جمع بُبُور (ح): شیر ببر، ہندوستان کا ایک شیر جس کا پیٹ اور پہلو سفید اور کالی دھاریوں والا ہوتا ہے۔

○ بَبْر جمع بُبُور: شیر، باگ، چیتا۔

ببغ: البَبَّغاء و البَبْغاء و البَبغاء جمع ببغاوات (ح): طوطا (مذکر و مونث)۔ البَبَّغائية: طوطے کی طرح الفاظ رٹنا، نہ معنی سمجھنا، نہ ان پر غور کرنا۔

بت: ۱۔ بَتَّ ۔ بَتًّا و اَبَتَّ اِبتاتًا ہ: کو کاٹنا۔ ــــ الامرَ: کسی کام کو نافذ کرنا۔ بَتَّتَ ہ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ــــ الوعدَ: پختہ وعدہ کرنا۔ تَبَتَّتَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اِنبَتَّ: کٹ جانا۔ البَاتّ: کاٹنے والا، قاطع۔ کہا جاتا ہے: بيعٌ باتٌّ: لازمی بیع۔ البَتَّة: بتّ کا اسم مرہ۔ بَتَّةً و بَتاتًا: قطعاً، یقیناً۔ کہا جاتا ہے: لا افعله البتّة: میں اس کو قطعاً نہیں کروں گا۔

۲۔ بَتَّ ۔ بَتًّا و اَبَتَّ ابتاتًا الرجلَ: کو مشقت میں ڈالنا۔

۳۔ بَتَّتَهٗ: کو زاد سفر دینا۔ تَبَتَّتَ: توشہ لینا۔ البَتَات جمع اَبِتَّة: توشہ، زادِ راہ، گھر کا سامان (کہا جاتا ہے: هو علی بتاتِ امرٍ: وہ کام کے قریب جا لگا) گھر کا سامان۔

۴۔ البَاتّ: وبلا۔ البَتّ جمع بُتُوت: گاڑھا کپڑا۔ البَتّات و البَتِّيّ: موٹے کپڑے بننے والا، موٹے کپڑے بیچنے والا۔ البَتِّيَّة جمع بَتاتِيّ: لکڑی کا بڑا پیپا۔

○ بَتَّ ۔ بَتًّا ہ: کو کاٹنا، الگ کرنا، جدا کرنا؛ کو مکمل کرنا، کو کر ڈالنا، انجام دینا، پورا کرنا، کو مقرر کرنا، طے کرنا، کا فیصلہ کرنا۔ ــــ فی: پر فیصلہ کرنا۔ بَتَّتَ ہ: پر غور کرنا یا اس کی صحت یا وقوع کا اعلان کرنا، کا فیصلہ کرنا۔ اِنبَتَّ: کٹ جانا، ختم ہو جانا، ہو جانا، کا فیصلہ ہو جانا۔ قد انبت الامرُ بينه و بينهم: معاملہ نے اس اور ان کے درمیان تعلق ختم کر دیا۔ بَتّ: فیصلہ، تصفیہ۔ بَتًّا: قطعاً، آخری بار، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے۔ البَتَّةَ و بَتَّةً: قطعاً، یقیناً، (نفی کے ساتھ) قطعاً نہیں، یقیناً نہیں۔ بَتِّي: صاف صاف، واضح، غیر مبہم، قطعی، حتمی۔ بَتِّيَّة و بِتِيَة جمع بَتاتِي: پیپا، ٹب، ناند۔ بَتاتًا: قطعاً، یقیناً، صاف صاف، قطعی طور پر، واقعی، مطلقاً۔ باتّ: صاف صاف، واضح، قطعی، حتمی، آخری، فیصلہ کن، غیر مشروط۔ منع باتّ: قطعی امتناع یا مخالفت۔

بتر: ۱۔ بَتَرَهٗ ۔ بَترًا: کو کاٹنا۔ بَتِرَ بَتَرًا و انبَتَرَ: کٹ جانا۔ اَبتَرَهُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو بے اولاد کر دینا۔ البَاتِر و البَتَّار و البَتّار جمع بَوَاتِر: شمشیر براں۔ الأَبتَر م بَتراء: کٹا ہوا، دم کٹا۔ (ــــ من الحيّات: چھوٹا یا زہریلا سانپ) بے اولاد جس کی نسل باقی نہ رہے۔ الأَبتَران: غلام، جنگلی گدھا۔ البَتراء من الخُطَب: وہ خطبہ جو الحمد للہ سے خالی ہو۔

۲۔ البترول: پٹرول۔ عربی میں اسے النفط کہتے ہیں۔ جب کہ عام بول چال میں الکاز۔

○ بَتَرَ ۔ بَترًا ہ: کو کاٹنا، جدا کرنا، قطع کرنا، کاٹ دینا، (عبارت کو) کانٹ چھانٹ کر بگاڑ دینا۔ اِنبَتَر: کٹ جانا، جدا ہو جانا، قطع ہو جانا، کاٹ دینا جانا۔ بَتر: کاٹ ڈالنا، علیحدگی، تقسیم، انقطاع، تفریق، قطع و برید، قطع عضو۔ أَبتَر: تخفیف کیا ہوا، قطع کیا ہوا، مختصر کیا ہوا، کانٹ چھانٹ کیا ہوا، قطع و برید کیا ہوا، لنڈورا کیا ہوا، دم کٹا، ترشا ہوا، کانٹ چھانٹ کر درست کیا ہوا، ناقص، ادھورا، عیب دار، نامکمل، بے اولاد۔ بَتَّار و باتِر: کاٹنے والا، قطع کرنے والا، تیز۔ مَبتُور: ٹوٹا ہوا، جدا کیا ہوا، غیر مربوط، بے ربط، بے جوڑ، نامکمل۔

○ بَترَك: اسقف، پادری، بزرگ خاندان، سردار۔

بتع: بَتِعَ ۔ بَتَعًا: مضبوط گردن یا مضبوط جوڑوں والا ہونا صفت مذکر: أَبتَع صفت مؤنث: بَتعاء جمع بُتع۔ الأَبتَع: پُر گوشت۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا كلهم أبتعون: وہ سب کے سب آئے۔

○ بَاتِع: مضبوط، پُر، سب، تمام، جملہ پورا کا پورا، سب کا سب۔

بتك: بَتَكَ ۔ بَتْكًا و بَتَّكَ ہٗ: کو کاٹ ڈالنا۔ تَبَتَّكَ و اَنبَتَكَ: کٹ جانا، منقطع ہونا، کٹنا۔ البَتكَة جمع بِتَك: ٹکڑا، چیز کا کٹا ہوا حصہ۔ البَاتِك و البَتُوك: کاٹنے والا، قاطع، تلوار۔

بتل: ۱۔ بَتَلَ ۔ بَتْلًا و بَتَّلَ الشيءَ: کو کاٹنا اور دوسری چیز سے جدا کرنا۔ اِنبَتَلَ: کٹنا۔ عطاءٌ بَتْلٌ: بے مثل بخشش، عطاء، آخری بخشش۔ البَتِيلَة و البَتْلاء (ز): کھجور کا چھوٹا پودا جو ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگایا جائے۔ المُبتَل (ز): وہ کھجور جس کی شاخیں کاٹ کر دوسری جگہ لگائی گئی ہوں (واحد اور جمع دونوں کے لئے)۔

۲۔ بَتَلَ و تَبَتَّلَ: دنیا سے کٹ کر خدا کی طرف رخ کرنا، تجرد اختیار کرنا، شادی نہ کرنا۔ البَتُول: غیر شادی شدہ، باکرہ، حضرت مریم علیہا السلام کا لقب (حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب)۔ البتيلة بمعنی البتول۔ البُتُولَة و البُتُولِيَّة: تجرد کی حالت۔

۳۔ البَتِيل جمع بُتُل: وادی کے نچلے حصہ میں پانی کا راستہ۔ کہا جاتا ہے: خَصرٌ بتيل: باریک اور پتلی کمر۔

۴۔ البَتُولا (ن): برچ (ایک جنگلی درخت جس کی لکڑی بہت عمدہ ہوتی ہے روس میں بکثرت اگایا جاتا ہے۔)

○ بَتَلَ ۔ بَتْلًا و بَتَّلَ ہ: کو کاٹ ڈالنا، جدا کرنا، کو قطعی یا فیصلہ کن بنانا، مستحکم کرنا، کو قطعی طور پر طے کرنا۔ تَبَتَّلَ: دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کرنا، نیک ہونا، پاکیزہ ہونا، نفس کش ہونا، من مارنا، تجرد کی زندگی گزارنا۔ انبتل: کٹ جانا، لنڈورا ہونا، دم کٹا ہونا، مخفف ہونا، مختصر ہونا۔ بتول: کنواری۔ البتول: کنواری مریم علیہا السلام۔ بَتُولِي: دوشیزہ کی طرح، کنواریوں کی طرح۔ بَتُولِيَّة: کنوارپن، دوشیزگی، پاکدامنی۔ مُتَبَتِّل: زاہد، عابد، سنیاسی، تارک الدنیا، گوشہ نشین،

جوگی، نیک، متقی صالح، خداترس، اللہ والا، ولی۔

بثّ: ا۔ بثّ ـ بثًّا و بثّث الخبرَ: خبر پھیلانا۔ بثّ و باثّ و أبثّ فلاناً الخبرَ: کو خبر سے آگاہ کرنا، باخبر وواقف کرنا۔ تباثّ القومُ الأسرارَ: ایک دوسرے کو راز کی باتوں سے واقف کرنا۔ انبثّ: پھیلنا۔ استبثّه الخبرَ: سے کوئی خبر دریافت کرنا۔

۲۔ بثّ ـ بثًّا و بثّث الشیءَ: کو بکھیرنا۔ انبثّ: بکھرنا، متفرق ہونا، پھیلنا۔ البثّ: پراگندگی۔

۳۔ بثّ ـ بثًّا و بثّث الغبارَ: غبار اُڑانا۔ انبثّ: غبار وغیرہ کا اڑنا۔

۴۔ البثّ: سخت غم، حالت۔

۵۔ بثّث الخبرَ: خبر پھیلانا۔ ـ الغبارَ: غبار اُڑانا۔

○ بثّ ـ بثًّا ہ: کو پھیلانا، کھولنا (جیسے کمبل کو)، کو بکھیرنا، تتر بتر کرنا، منتشر کرنا، (روح، نظریہ، عقیدہ وغیرہ) پھیلانا، کی نشرواشاعت کرنا۔ ـ ہ ہ: کو پر چھڑکنا۔ ـ ہ/ل ہ: کو کسی راز وغیرہ میں شریک کرنا۔ ـ: براڈ کاسٹ کرنا، ریڈیو کے ذریعے بھیجنا، ارسال کرنا۔ بثّ العیونَ: ادھر ادھر جھانکنا۔ بثّ الالغام: سرنگیں دبانا، لگانا۔ أبثّ ہ ہ: کو راز میں شریک کرنا۔ انبثّ: پھیلنا، منتشر ہونا۔ بثّ: پھیلانا، نشرواشاعت، غم واندوہ۔

بثر: ا۔ بثَر ـ و بثِر ـ و بثُر ـ بثْراً و بثَراً و بثوراً و تبثّر وجهُه: کے چہرے پر پھنسیاں نکلنا۔ صفت: بثِر و بثیر۔ البثْر جمع بثور: پھنسی۔ واحد: بثرة۔

۲۔ الباثر (فا): حاسد۔ المبثور: وہ شخص جس سے حسد کیا جائے۔

۳۔ الباثر (فا): رسنے والا پانی۔ البثیر: بہت، فراواں، بہ افراط۔ کثیرٌ بثیرٌ: بہت زیادہ۔ المبثور: بہت دولت مند۔

○ بثَر ـ و بثِر ـ و تبثّر: ہ میں کیل مہاسے چھالے، پھنسیاں، گومڑے سے یا دنبل نکل آنا۔ بثر جمع بثور واحد بثرة جمع بثرات: کیل، مہاسے، چھالے، پھنسیاں، گومڑے، مستے یا دنبل۔ بثِر و بثیر: کیل مہاسوں والا، پھنسیوں والا۔

بثع: بثِعت ـ بثعًا الشفةُ: ہونٹوں کا خون سے بھر کر سرخ ہو جانا۔ الأبثع: وہ شخص جس کے ہونٹ کثرت خون سے سرخ ہوں جمع بُثع۔ بثعاء جمع بُثع: وہ عورت جس کے ہونٹ کثرت خون سے سرخ ہوں۔

بثق: ا۔ بثَق ـ بثقًا و تبثاقًا النهرَ: دریا کے بند کو توڑنا تاکہ پانی بہے۔ البَثق و البِثق جمع بُثوق: دریا کے کنارے کا ٹوٹا ہوا حصہ۔

۲۔ بثق ـ بثقًا و تبثاقًا و بثق السیلُ الموضعَ: سیلاب کا جگہ کو پھاڑ دینا یا اس میں شگاف کر دینا۔ انبثق الماءُ: پانی کا بہہ پڑنا۔ ـ الکلامُ: کلام کا نکلنا، جاری ہونا، ظہور ہونا، نصاریٰ کے نزدیک: روح القدس کا ظاہر ہونا، صدور ہونا۔

○ بثق ـ بثقًا النهرَ: دریا کا بند توڑنا تاکہ پانی بہہ جائے۔ انبثق: زور سے نکل جانا، نکلنا۔ ـــ من/عن: سے نکلنا، جاری ہونا، ظہور ہونا۔ انبثاق: اظہار جذبات، کثرت، افراط، بہاؤ، پھٹ پڑنا، ظہور، صدور۔

بجّ: ا۔ بجّ ـ بجًّا ہ: کو پھاڑنا۔ ـ ہ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ انبجّ: پھٹنا۔

۲۔ بجّ ـ بجًّا الکلأُ الناقةَ: گھاس کا اونٹنی کو موٹا کرنا۔ الأبجّ: کشادہ آنکھوں والا مونث بجّاء۔ عینٌ بجّاءُ: کشادہ آنکھ۔

۳۔ البجّ (ح): پرندہ کا چوزہ۔

۴۔ بجبج الصبیَّ: بچہ کو بہلا کر چپ کرانا۔ تبجبج اللحمُ: گوشت کا زیادہ اور ڈھیلا ہونا۔ البجباج: موٹا، بھرے جسم والا۔ رملٌ بجباجٌ: بڑی مقدار میں ریت کا ایک جگہ اکٹھا ڈھیر۔

بجح: بجح ـ بجحًا بہ: سے، پر خوش ہونا۔ تبجّح: فخر کرنا۔ ـ فی الغنی: وسیع دولت والا ہونا۔ تباجح: فخر کرنا، بڑا بننا اسی سے: النساء یتباجحن فیما بینهن: عورتیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں ڈینگیں مارتی ہیں، لاف زنی کرتی ہیں اور خودستائی کرتی ہیں۔ البجّاح: بہت فخر کرنے والا، بہت شیخی بگھارنے والا۔

○ بجح ـ بجحًا ب: پر خوش ہونا۔ تبجّح ب: کے بارے میں بڑ ہانکنا، کو لہرا لہرا کر فخر سے دکھانا، کی نمود و نمائش کرنا، کے بارے میں ڈینگ مارنا، شیخی بگھارنا، لاف زنی کرنا۔ تبجّح: شیخی بگھارنا، ڈینگیں مارنا، لاف زنی۔ متبجّح: شیخی خورہ۔

بجد: بجد ـ بجوداً و بجّد بالمکان: کسی جگہ ٹھہرنا، مقیم ہونا، اقامت کرنا۔ البجدُ من الناس: جماعت، گروہ۔ ـــ من الخیل: سو یا سو سے زائد گھوڑے۔ بُجدةُ الأمر و بُجدتُه و بُجُدتُه: کسی معاملہ کی حقیقت، اصلیت۔ کہا جاتا ہے: عنده بُجدةُ الأمر و هو ابن بجدة الأمر: وہ اس معاملہ کی حقیقت جانتا ہے۔ البِجاد جمع بُجُد: دھاریدار کپڑا۔

○ بَجْدَة و بُجْدَة: جڑ، اصل، منبع، سرچشمہ، دل، ست، جوہر، روح، بنیاد۔ بجدة الأمر: معاملات کی حقیقی حالت، سچے حقائق، معاملہ کا دل۔ هو ابن بجدتها: وہ کام کو نیچے سے اوپر تک جانتا ہے وہ اس کے لئے صحیح آدمی ہے۔

بجر: ا۔ بجِر ـ بجَراً الرجلُ: بڑے پیٹ والا ہونا، پانی اور دودھ سے بھرے پیٹ کے باوجود سیراب نہ ہونا صفت: بجِر و أبجر۔ ـ الرجلُ: باہر کو نکلی ہوئی موٹی جڑ والی ناف والا ہونا۔ الباجر جمع بُجرة (فا): پھولے ہوئے پیٹ والا۔ البُجرة جمع بُجَر: ناف۔

۲۔ تبجّر النبیذَ: نبیذ کے پینے میں زیادتی و اصرار کرنا۔

۳۔ البُجر جمع أباجر و أباجیر و البُجَریّ جمع بجاریّ: شر، بڑی بات، مصیبت، کہا جاتا ہے: لقیتُ منه البجاریَّ: مجھے اس سے مصیبتیں ملیں۔ البُجرة جمع بُجَر: عیب (کہا جاتا ہے: ذکر عُجَرَه و بُجَرَه: اس نے اس کے ظاہری و باطنی سب عیب بیان کر دیئے)۔ چہرہ۔

○ أبجر: بہت موٹا، کپا، فربہ، لحیم شحیم۔

بجس: ا۔ بجس ـ بجسًا و بجّس الماءَ: پانی جاری کرنا، بہانا۔ انبجس و تبجّس الماءُ: پانی کا جاری ہونا، پھوٹنا۔ البَجْس و البجیس: بہنے والا، پھوٹنے والا۔ کہا جاتا ہے: عینٌ بجیسٌ: بہت پانی والا چشمہ۔ ماءٌ بجیسٌ: بہتا ہوا پانی۔ سحائب بُجّس: برستے بادل۔

۲۔ بجس ـ بجسًا و بجّس الجرحَ: زخم چیرنا۔

بجع: بجع ـ بجعًا ہ: کو تلوار سے کاٹ دینا۔ البجع (ح): ایک لمبی چوڑی چونچ والا پرندہ جس کی چونچ کے نیچے ایک موٹا پوٹا ہوتا ہے۔ لق لق واحد بجعة۔

○ بجع: (اسم جنس واحد بجعة): ایک ماہی خور آبی پرندہ (pelican)۔

بجل: ا۔ بجَل ـ و بجِل ـ بجَلاً و بجولاً: خوش ہونا۔

۲۔ بجِل ـ و بجَل ـ بجلاً: خوش حال ہونا صفت باجل۔

۳۔ بجُل ـ بجالةً و بجولاً: معزز ہونا، باشرف ہونا، صفت: بجیل۔ بجّله: کی تعظیم کرنا۔

۴۔ أبجله الشیءُ: کو چیز کا کافی ہونا۔ بجل: اسم فعل بمعنی حسب۔ ہم کہتے ہیں: بجلك:

تمہارے لئے کافی ہے۔

۵۔ بَجَلْ: نعم کی طرح حرف جواب ہے بمعنی ہاں۔

الأَبْجَل جمع اَباجِل (ع ا): ہاتھ یا پاؤں کی ایک موٹی رگ۔

○ بَجَّل ہ: کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، کا ادب کرنا، کا احترام کرنا۔ ـــــ ہ/ ہ علی: کو پر مقدم کرنا، کو پر برتری دینا۔ تَبَجَّل: معزز ہونا، محترم ہونا، تعظیم دیا جانا، محترم ہونا، عزت کیا جانا۔ بَجَل: آتشک، باد فرنگ۔ مُبَجَّل: محترم، معزز، قابل تعظیم، عزت دار، مکرم، قابل احترام، واجب التعظیم، مقدس مآب۔

بجم: بَجَمَ - بَجْمًا و بُجُومًا: ڈر یا عاجزی کی وجہ سے چپ ہونا، دیر کرنا، افسردہ دل ہونا۔ بَجَمَ: آہستہ ہونا، دیر لگانا، تیز نظر ڈالنا۔

○ بَجَمَ - بَجْمًا و بُجُومًا: وفور جذبات سے ساکت ہونا، گونگا ہونا، بے سخن ہونا، گم سم ہونا، لاجواب ہونا، گھبرا جانا، بدحواس ہونا۔

بح: ۱۔ بَحَّ - بَحًّا و بَحَحًا و بُحُوحًا و بَحاحًا و بُحُوحَةً و بَحاحَةً: گلوگرفتہ ہونا، بیٹھی ہوئی آواز والا ہونا صفت مذکر: اَبَحّ صفت مونث: بَحّاء و بَحَّة جمع بُحّ۔ أَبَحَّهُ و بَحَّحَهُ: کسی کو گلوگرفتہ کرنا، کی آواز بٹھانا، بھاری کرنا۔ البُحَّة: آواز کا بھاری پن اور اس کا بیٹھا ہونا۔

۲۔ بَحْبَحَ و تَبَحْبَحَ: اچھی طرح ٹھہرنا۔ بحبحت العربُ فی لغاتها: عرب کی لغت میں وسعت پیدا ہوگئی۔ تَبَحْبَحَ الدارَ: گھر کے وسط میں ٹھہرنا۔ بُحْبُوحَةُ الدارِ: گھر کا وسط یا درمیان۔ ـــــ العیش: زندگی کی فراخی اور عمدگی۔

○ بَحَّ - بَحًّا و بَحَحًا و بُحُوحًا و بَحاحًا و بُحُوحَةً و بَحاحَةً: بیٹھی ہوئی آواز والا ہونا یا ہو جانا، کی آواز کا بھرائی ہوئی ہونا، گلوگرفتہ ہونا یا ہو جانا، بھاری آواز والا ہونا یا ہو جانا، سخت ہونا۔ بَحَّحَ و اَبَحَّ ہ: کو بیٹھی ہوئی آواز والا کرنا، گلوگرفتہ کرنا، کی آواز بھاری یا سخت کرنا۔ بُحَّة: گرفتہ آواز، آواز کا بیٹھا ہوا یا بھرائی ہوئی ہونا۔ مَبْحُوح: بیٹھی ہوئی آواز والا، گلوگرفتہ۔ تَبَحْبَحَ: اقبال مند ہونا، خوشحال ہونا، فارغ البال ہونا، مزے کرنا۔

بَحْبُوح: مسرور، خوش، خوش طبع۔ بُحْبُوحَة: وسط، درمیان، خوشحالی اور آسائش کی زندگی، اقبال مندی، دولتمندی، مرفہ الحالی، تونگری، دولت کی بہتات۔ فی بحبوحۃِ من: کے درمیان (میں)، میں، کے دوران میں۔ مُبَحْبِح: خوش حال، اقبال مند، پر آسائش اور خوشحالی کی زندگی سے لطف اٹھانے والا۔

بحت: ۱۔ بَحُتَ - بُحُوتَةً: خالص ہونا۔ باحَتَهُ الوُدَّ: کے ساتھ خالص دوستی کرنا۔ البَحْت: خالص۔ شرابٌ بَحْتٌ: خالص بے ملاوٹ شراب۔ مسکٌ بَحْتٌ: بغیر کسی آمیزش مشک۔ عربیٌّ بَحْتٌ: خالص نسب عرب۔ مؤنث: بَحْتَة۔ لفظ بحت واحد تثنیہ اور جمع اور مذکر و مونث سب کے لئے آتا ہے۔ اگر چاہو تو مونث، تثنیہ و جمع استعمال کر سکتے ہو۔

۲۔ باحَتَ فلانًا: کو بتانا۔

۳۔ البُحْتُر و البُحْتُرِیّ: پستہ قد، پست قد، گٹھیلے بدن والا۔

○ بَحْت: خالص، ملاوٹ کے بغیر، بے میل، نرا، سراسر، فقط، محض، صرف، بے کم و کاست، بلا شرکت غیرے۔ بحت الامر: اسی معنی میں ہے۔ بَحْتًا: صرف اس لئے، نرا، محض، صرف، فقط، مخصوص طور پر۔

○ بُحْتُر: پستہ قد اور موٹا، گٹھیلا، فربہ، موٹا، تازہ۔ بُحْتُرِیّ: پستہ قد اور موٹا، گٹھیلا، فربہ موٹا تازہ۔

بحث: ۱۔ بَحَثَ - بَحْثًا فی الأرض: زمین کھودنا۔ یہ مثل اسی سے ہے: کالباحثِ عن حَتْفِهِ بظلفه: اپنی تباہی کا سامان خود مہیا کرنے والے کی طرح۔ البَحْث جمع أَبحاث (مص): مٹی کے نیچے کسی چیز کی تلاش سونے وغیرہ کی کان۔ المَبْحَث جمع مَباحِث: بحث، بحث کی جگہ۔ مباحثُ البقر: نامعلوم جگہ یا بنجر زمین۔

۲۔ بَحَثَ - بَحْثًا ہ: کو طلب کرنا۔ ـــــ عنه: کی تفتیش کرنا۔ تَبَحَّثَ و ابْتَحَثَ و اِسْتَبْحَثَ عنه: کی تفتیش کرنا۔ البَحْث جمع أَبحاث (مص): تفتیش، تحقیق۔ البَحّاث: بہت بحث کرنے والا۔ المَبْحَثَة: بحث و تدقیق۔ البَحِیث: راز، بھید۔

۳۔ باحَثَهُ: کو مخاطب کرنا، سے بحث کرنا، گفتگو کرنا۔ تَباحَثُوا: باہم گفتگو کرنا، آپس میں بحث و مباحثہ کرنا۔

۴۔ بَحْثَرَ - بَحْثَرَةً الشیءَ فتبحثر: کو بکھیرنا جس پر اس کا بکھر جانا، کو کھولنا، جدا جدا کرنا، منتشر کرنا، تو اس کا ظاہر ہو جانا اور جدا جدا ہو جانا اور منتشر ہو جانا۔

○ بَحَثَ - بَحْثًا ہ/عن: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، مانگنا، چاہنا، کی کوشش کرنا۔ ـــــ تحقیق کرنا۔ ـــــ ہ/عن: کی تحقیقات کرنا، کا مطالعہ کرنا، امتحان لینا، بغور مشاہدہ کرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا (کبھی اس معنی میں فی یا علی کا صلہ بھی آتا ہے۔) ـــــ ہ: (کسی موضوع یا سوال پر) بحث کرنا۔ باحَثَ ہ فی: سے کسی معاملہ وغیرہ پر بحث مباحثہ کرنا۔ تَباحَثَ: بحث کرنا یا باہم بحث کرنا۔ ـــــ مع فی: سے کے بارے میں گفتگو کرنا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، صلاح مشورہ کرنا۔ بَحْث جمع بُحُوث و بُحُوثات و أَبحاث عن: کی تلاش، جستجو، بحث (مذکورہ بالا جملوں کے ساتھ) بغور مشاہدہ، کا مطالعہ، تحقیق (ریسرچ) تحقیقات، گہرا مطالعہ، غور و خوض، بحث مباحثہ، رسالہ، مقالہ (Treatise) جمع أَبحاث: مطالعہ۔ ـــــ فی: پر سائنسی رپورٹ۔ بَحّاث جمع بَحّاثون: عالم، فاضل، علمی تحقیق پر کام کرنے والا (research worker)۔ بَحّاثَة: ممتاز عالم۔ مَبْحَث جمع مَباحِث: موضوع بحث، موضوع، مرکزی خیال (theme)، تحقیق یا بحث کا میدان، تحقیق کی چیز، ریسرچ، علمی تحقیق، مطالعہ، بغور مشاہدہ، تحقیقات۔ مُباحَثَة جمع مُباحثات: بات چیت، گفتگو، تبادلہ، خیال، مذاکرات، گفت و شنید، بحث، مشورہ، مشاورت، صلاح۔ باحِث جمع باحثون و بُحّاث: عالم، علمی تحقیق پر کام کرنے والا، تحقیقات کرنے والا۔ بَحْثَرَ ہ: کو بکھیر دینا، منتشر کر دینا، کو ضائع کر دینا، گنوانا۔ تَبَحْثَرَ: بکھر جانا، منتشر ہو جانا، ضائع ہو جانا۔ بَحْثَرَة: (عیاشی وغیرہ میں) مال اڑانا، ضائع کرنا، ہونا، تضییع۔ مُبَحْثِر: فضول خرچ، ضائع کرنے والا، مال اڑا دینے والا، مسرف۔

بحر: ۱۔ بَحِرَ - بَحَرًا: ڈر سے حیران یا مبہوت ہونا۔ الباحِر: مبہوت۔

۲۔ بَحِرَ - بَحَرًا: سخت پیاس کی وجہ سے پانی سے سیراب نہ ہونا صفت بَحِر۔

۳۔ بَحَرَ - بَحْرًا الأرضَ: زمین کو چیرنا، پھاڑنا۔ ـــــ الناقةَ: اونٹنی کے کان چیرنا۔ صفت مفعولی: بَحِیرَة جمع بَحائِر و بُحُر۔

۴۔ أَبْحَرَ الماءُ: پانی کا نمکین اور کھاری ہونا۔ ـــــ ت الأرضُ: زمین کا دلدلی ہونا۔ البَحْر جمع أَبْحُر و بُحُور و بِحار: تصغیر اُبَیْحِر: نمکین یا کھاری پانی۔

۵۔ أَبْحَرَ: سمندر پر سفر کرنا۔ تَبَحَّرَ فی العلم: وسیع علم کا مالک ہونا۔ ـــــ فی المال: کثیر المال ہونا۔ اِستَبْحَرَ فی العلم او المال: وسیع العلم یا

كثير المال ہونا۔ الشاعرُ او الخطيبُ شاعر یا خطیب کا لوگوں میں شہرہ ہونا۔ البَحر جمع أبحُر و بُحور و بحار ۔ تصغیر اُبَیحر سمندر۔ (البحر المحيط پانچوں براعظموں کو گھیرنے والا سمندر) ہر بڑا دریا جیسے دریائے نیل۔ ____ جمع بُحور من السماح فیاض اور بہت بھلائیاں کرنے والا۔ البَحری بحر کا، بحر کے متعلق۔ البَحّار جمع بَحّارة ملاح۔ البَحرة جمع بِحار و بُحَر دلدل، تالاب۔ البُحَیرة (تصغیر) جھیل، چھوٹا سمندر۔

۲۔ البحر جمع بُحور وزن شعر جسے بحر کہا جاتا ہے۔ البُحرة جمع بِحار و بُحَر پست علاقہ، بڑا باغ۔ الباحر احمق، متجسس۔ الباحور و الباحوراء ماہ جولائی کی سخت گرمی۔ البُحران امراض حادہ میں اچانک پیدا ہونے والا تغیر، شدت مرض کے باعث قوت مدرکہ میں واقع ہونے والا خلل اور گڑبڑ۔ البَحرین ایک ملک کا نام، اس کی طرف نسبت بَحرانی ہے، جو خلاف قیاس ہے۔

○ بَحِر - بَحَراً خوف سے چونک اٹھنا، گھبرا جانا، حواس باختہ ہو جانا، حیران ہو جانا، بوکھلا جانا۔ بَحَّرَ بذریعہ سمندر سفر کرنا، بحری جہاز کا سفر کرنا۔ أبحَرَ بذریعہ سمندر سفر کرنا، بحری جہاز کا سفر کرنا، جہاز پر سوار ہونا، جہاز کا سمندری سفر کا آغاز کرنا، سمندری جہاز کا چلنا، سمندری سفر پر جانا، سمندری جہاز کا روانہ ہونا، جہاز کا دریائے نیل میں بہاؤ کے رخ جانا، عازم بحر ہونا۔ تَبَحَّرَ فی کی تہہ کو پہنچنا، کی چھان بین کرنا، کسی موضوع کا پوری طرح مطالعہ کرنا۔ اِستَبحَر بمعنی تَبَحَّرَ۔ بَحر جمع بِحار و بُحور و أبحار و أبحُر سمندر، بڑا دریا، شریف اور بڑا آدمی جس کی فراخ دلی یا علم سمندر کی وسعت کے ہم پلہ ہو، شعر کا وزن۔ فی بَحرِ کے دوران۔ فی بَحرِ سنتین دو سالوں کے دوران، دو سالوں کے اندر اندر۔ البحرُ الأبیضُ المُتَوَسِّط یا البحر الابیض بحر ابیض متوسط (the Mediterranean)۔ بحرُ البلطیق بحر بالٹک (the Baltic sea)۔ بحر الجَنوب جنوبی سمندر۔ البحر الاحمر یا بحر القُلزُم بحر احمر، بحر قلزم (the Red sea)۔ بحرُ الخَزَر یا البحر الكسبياني بحر کیسپین (the Caspian sea)۔ البحر الأسوَد بحر اسود (the Black sea)۔ بحر الظُلُمات بحر اٹلانٹک (the Atlantic) بحرُ لوط یا البحر المیّت بحر مردار (the Dead sea)۔ بحرِ النیل دریائے نیل۔ البَحارنة جزائر بحرین کے باشندے۔ بَحرانی جزائر بحرین کا۔ البحرین جزائر بحرین۔ بحرین (ملک)۔ بَحری سمندری، بحری امور کے متعلق، بحریہ کا، بحری مسائل کے متعلق، بحری سیاحت کے بارے میں، بحری جہاز کا، جہاز رانی کے متعلق، ملاحوں، بحری فوج کا، جہازوں کا، جہاز رانی کا، شمالی (مصر میں)، کا شمال جمع بحریون و بحریة ملاح، کشتی بان، جہاز ران۔ القوات البحرية بحری فوج۔ نباتات بحرية پانی کے پودے۔ بَحریة بحریہ، بحری طاقت، جنگی جہازوں کا بیڑہ۔ بُحَیرة تالاب، جوہڑ، چھوٹی جھیل۔ بَحّار جمع بَحّارون و بَحّارة ملاح، جہاز ران، جمع بَحّارة بحری یا ہوائی جہاز کا عملہ، جہاز ران۔ بُحَیرة جمع بُحَیرات و بَحائر جھیل، (تونس میں) سبزیوں کا باغ۔ بُحران (کسی بیماری کا) تشویشناک مرحلہ یا نازک لمحہ۔ مُتَبَحِّر (فی) سے پوری طرح واقف۔ مُتَبَحِّر گہرا مفکر، عالم فاضل، تیز فہم، زیرک۔

بخ: ۱۔ بَخَّ ـُ بَخّاً فی النوم سونے میں خراٹے لینا، غصہ ٹھنڈا کرنا۔ بَخِ اسم فعل ہے بمعنی شاباش، آفریں، مرحبا، (تعریف اور رضامندی کے اظہار کے لئے) جب کہ مبالغہ مراد ہو تو اس کو تکرار رلاتے ہیں اور کہتے ہیں بَخٍ بَخٍ یا بخٍّ بخٍّ۔

۲۔ بَخبَخَ فی النوم نیند میں خراٹے لینا۔ البعیرُ اونٹ کا بلبلانا اور منہ کا جھاگ سے بھر جانا۔ ____ الرجلَ کو شاباش دینا۔ تَبَخبَخَ الحرُّ گرمی کا کم ہونا۔

○ بَخَّ نیند میں خراٹے لینا۔ ــ ہ کی پچکاری مارنا، کو یکایک نکالنا، دھار بنا کر نکالنا۔ ــ ہ ب کو سے چھڑکنا، سے چھینٹے اڑانا۔ بَخ بَخ شاباش، واہ واہ، بہت اچھے، مرحبا، بہت خوب، بہت ہی اچھا۔ بَخاخة ناک، تھوتھنی، ٹونٹی، دہانہ، منہ۔ بخيخة پچکاری، سرنج Syringe۔ مِبَخّة ناک، تھوتھنی، ٹونٹی، دہانہ، منہ۔

بخت: ۱۔ بَخَتَ ـُ بَخْتاً ہ کو مارنا، پیٹنا۔ بُخِتَ الرجلُ بزدل ہونا۔ بَخَتَهُ کو لا جواب کر دینا۔ البَخت نصیب (فارسی لفظ ہے اس کی فصیح عربی حظ ہے۔ البَخیتُ والمَبخوت نصیبہ ور، خوش قسمت

۲۔ بَختَرَ بَختَرة و تَبَختَرَ ناز سے چلنا، متکبرانہ چال سے چلنا۔ البِختیر خوبصورت جسم والا، شیخی باز، مغرور، خودبین، خودپسند، اکڑ باز، متکبر۔ البَختَرِيّة و التَبَختُرِيّة خودپسندانہ چال، متکبرانہ چال۔ کہا جاتا ہے: فلان يمشي البَختَرِيّة: فلاں شخص متکبرانہ چال سے چلتا ہے۔

○ بَخت: قسمت، نصیب، لاٹری کی ایک قسم۔ قليل البخت بدقسمت۔ سوء البخت بدقسمتی۔ بَخیت: خوش قسمت، خوش نصیب۔ مَبخوت خوش قسمت، خوش نصیب۔

○ تَبَختَرَ اکڑ کر چلنا، اترانا، اکڑنا، اترا کر پھرنا۔

بخر: ۱۔ بَخِرَ ـَ بَخَراً الفمُ گندہ دہن ہونا صفت: أبخَر۔

۲۔ بَخَرَت ـُ بَخراً القِدرُ ہانڈی کی بھاپ نکلنا۔ بَخَّرَ بھاپ نکالنا۔ تَبَخَّرَ الماءُ پانی کا بھاپ بننا یا ہونا۔ البُخار جمع أبخِرة (ف) بھاپ۔ الباخِرة اسٹیمر streamer۔

۳۔ بَخَّرَهُ و عليه کو دھونی دینا، کو دھونی دے کر خوشبودار بنانا۔ تَبَخَّرَ دھونی لینا، دھونی سے خوشبودار ہونا۔ البَخور جمع أبخِرة و بَخورات ہر وہ شے جس سے دھونی دی جائے۔ بخور مریم و بَخور الأكراد و بخور البَرّ و بخورُ السودان و بخور البَربَر (ن) پودا جس کے پتے زمین پر گلدستے کی طرح جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے لمبی لمبی خمدار ڈنڈیاں نکلتی ہیں جن کے اطراف میں پھول لگتے ہیں، آرائش کے لئے کاشت کیا جاتا ہے۔ المِبخَرة عودسوز۔

○ بَخَّرَ ہ کو بخارات میں تبدیل کرنا، بھاپ بنانا، خوشبودار بنانا، معطر کرنا، وبائی اثرات سے پاک کرنا، کے جراثیم دور کرنا، کو عود، لوبان سے خوشبودار بنانا، کو مہک دار دھوئیں سے دھونی دینا۔ تَبَخَّرَ (پانی کا) بخارات میں تبدیل ہونا، خوشبودار ہونا، بخار بن کر اڑ جانا۔ بُخار جمع بُخارات و أبخِرة بخار، دھواں، بھاپ، کہر، بخارات، دھونی۔ بُخاري بھاپ کا، بھاپ سے چلنے والا۔ بَخور بخورات (بخورات کی) دھونی، لوبان۔ بَخور مريم (پہاڑی کنول) cyclamen۔ أبخَر گندہ دہنی میں مبتلا۔ مِبخَرة جمع مَباخِر و مِبخَرات عود سوز، عودان، اگردان، اگردتا، دھونی۔ تَبخیر بخارات یا دھوئیں سے ہوا صاف کرنے کا عمل۔ بُوَیخِرة چھوٹی دخانی کشتی۔

بخز: بَخَزَ - بَخزاً عینَهُ: کی آنکھ پھوڑنا۔

بخس: ۱۔ بَخَسَ - بَخْساً ہُ: کو گھٹانا (اسی سے ہے۔ لاتبخس اخاكَ حقَّهُ: اپنے بھائی کا حق نہ گھٹا) پر ظلم کرنا۔ تَبَاخَسَ القوم: لوگوں کا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، خرید و فروخت میں ایک دوسرے کو دھوکا دینا۔ البَخْس (مص) ناقص۔ ہم کہتے ہیں: شَرَوْهُ بثمن بَخْسٍ: کو گھٹیا قیمت میں بیچ دیا۔

۲۔ بَخَسَ - عینَهُ: کی آنکھ پھوڑنا۔

۳۔ البَخْس: بارانی زمین۔ البَخْسِیّ من الزرع: بارانی فصل۔ الأَبَاخِس (ع ا) انگلیاں، انگلیوں کی جڑیں، انگلیوں کا پٹھا نس یا رگ۔

○ بَخَسَ - بَخْساً ہ: کو کم کرنا، گھٹانا۔ — قیمتَهُ: کی قیمت کم کرنا۔ — ہ: کو نظر انداز کرنا، کو اہمیت نہ دینا، کا لحاظ نہ کرنا، کی پروا نہ کرنا، سے بے توجہی کرنا، تغافل کرنا، کا دھیان کرنے میں ناکام رہنا۔ بَخْس: بہت کم۔ بَاخِس: تھوڑا، غیر اہم۔

بخش: ۱۔ بَخَشَ - بَخْشاً الشیءَ: میں سوراخ کرنا (عام بول چال میں)۔ البَخْش: سوراخ (عام بول چال میں)۔

۲۔ بَخْشَش: دینا، عطا کرنا (عام بول چال میں)۔ البَخْشِیش: انعام عطیہ، بخشش، فصیح عربی میں راشن، حلوان ہے۔ (عطیة مجانیة و اکرامیة بھی عام لوگوں کی گفتگو میں استعمال ہوتا ہے) جمع بَخَاشِیش۔

بخص: بَخَصَ - بَخْصاً عینَهُ: کی آنکھ نکال دینا۔ — الرجُلَ: آنکھ کے اوپر یا نیچے غدہ والا ہونا، صفت مذکر: اَبْخَص صفت مونث بَخْصاء جمع بُخْص۔ تَبَخَّصَ: تیز نظر سے دیکھنا، پلکوں کا الٹ جانا۔ البَخَص واحد بَخَصَة: نچلی پلک کے نیچے کا گوشت، قدم کا گوشت، انگلیوں کی جڑ کا گوشت۔ مَبْخُوصُ القدمین: پتلے پاؤں والا۔

بخع: بَخَعَ - بَخْعاً نفسَهُ: غم یا غصے سے اپنے آپ کو ہلاکت تک پہنچانا۔ — الأرضَ بالزراعة: زمین پر اُسے خالی چھوڑے بغیر کھیتی باڑی کرتا رہنا۔ —— بالشاة: بکری کو ذبح کرتے ہوئے گدی تک کاٹ دینا۔ — لَهُ نُصْحَهُ: کو بے لوث نصیحت کرنا۔ — ہ: کو نا امید لوٹا دینا، کو شرمندہ کرنا (عام بول چال میں)۔ بَخِعَ - بُخُوعاً و بَخَاعَةً بالحق: حق کا اقرار کرنا، مان لینا۔ بَخْعَهُ: کو بہت ملامت کرنا، بھلا برا کہنا، جھڑکنا، کی بہت سرزنش کرنا (عام بول چال میں)۔

○ بَخَعَ - بَخْعاً نفسَهُ: غم یا غصہ سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔

بخق: بَخَقَ - بَخْقاً و أَبْخَقَ عینَهُ: کی آنکھ کانی کرنا، آنکھ پھوڑنا۔ أَبْخَق و باخِق و بَخِیق و مَبْخُوق: کانا، یک چشم۔ بَخْقاء و باخِقة و بَخِیق و بخیقة و مَبْخُوقة: کانی آنکھ۔ بَخِقَتْ - بَخَقاً عینُهُ: کی آنکھ کا بری طرح کانی ہونا۔

بخل: بَخِلَ - بَخَلاً و بَخُلَ - بُخْلاً: بخیل ہونا، کنجوس ہونا۔ بَخِیل جمع بُخَلاء: بخیل کنجوس۔ — علیه و عنه: سے بخل کرنا، صفت: باخِل جمع بُخَّل۔ بَخَّلَهُ: پر بخیل ہونے کا الزام لگانا۔ أَبْخَلَهُ: کو کنجوس پانا۔ البُخْل و البُخُل و البَخْل و البَخَل البُخُول: کنجوسی۔ البَخَال و البَخَّال و المُبَخَّل و البَخَّل: بہت کنجوس۔ المَبْخَلَة: وہ چیز جو کنجوسی کا باعث ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: الولَدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ: لڑکا کنجوسی اور بزدلی کا باعث ہوتا ہے۔

○ بَخِلَ - بَخَلاً و بَخُلَ - بُخْلاً ب عن/علی: کے ساتھ یا ذریعے، کے بارے میں تنگ دل، خسیس، کنجوس یا بخیل ہونا۔ — عن/علی ب: سے کیلئے بخل کرنا۔ — ب عن/علی: میں سے کنجوسی کرنا۔ —— عن/علی ب: سے کچھ روک لینا۔ تَبَاخَلَ عن/علی ب: کو بیدلی سے کچھ دینا۔ بُخْل: لالچ طمع، حرص، لوبھ۔ بَخِیل جمع بُخَلاء: لالچی، طامع، حریص، بخیل، کنجوس، خسیس۔

بدّ: ۱۔ بَدَّ - بَدًّا رجلیه: ٹانگیں کھولنا۔ — الرجُلَ عن الشیءِ: کو سے دور کرنا، ہٹانا، روکنا۔ بَدَّ - بَدَدًا: زیادتی گوشت کی وجہ سے دونوں رانوں میں فاصلہ ہونا۔ بَدَّدَ الشیءَ: کو بکھیرنا، منتشر کرنا۔ تَبَدَّدَ: بکھرنا، منتشر ہونا۔ أَبَادِیدَ تَبَادِیدَ کہا جاتا ہے: ذهبوا ابادیدَ تبادیدَ: وہ منتشر ہو کر چلے گئے۔ طیرٌ اَبَادِیدُ و تبادیدُ: منتشر پرندے۔ الأَبَدّ مونث بَدّاء: ہاتھوں یا رانوں میں فاصلہ والا، بڑے جسم والا جس کے بعض حصے دوسرے حصوں سے دور ہوں۔

۲۔ بَدَّدَ الرجلُ: تھکنا۔

۳۔ بَادَّ مُبَادَّةً و بِداداً القومُ فی السفر: لوگوں کا سفر میں اپنا اپنا خرچ جمع کر کے اکٹھا خرچ کرنا۔ اَبَدَّ الشیءَ بینهم: ہر ایک کو اس کا حصہ دینا۔ تَبَدَّدَ القومُ الشیءَ: آپس میں کے حصے تقسیم کرنا۔ البُدّ و البُدَّة و البُداد: نصیب، حصہ۔

۴۔ بَادَّهُ مُبَادَّةً و بِداداً: کو تبادلہ سے فروخت کرنا۔ البَدّ: عوض۔

۵۔ اَبَدَّ یدَهُ: زمین کی طرف ہاتھ بڑھانا۔

۶۔ تَبَادَّ القومُ: میدان کارزار میں نکل کر اپنے اپنے مدمقابل پر حملہ کرنا، دو دو آدمیوں کا فاصلہ سے گزرنا۔ البِدّ و البَدِید: مثیل نظیر۔ هذا بِدُّهُ و بدیدُهُ: وہ اس جیسا ہے۔ البَدَاد: مبارزت، مدمقابل۔ کہا جاتا ہے: لقوا بَدادَهُم: وہ اپنے مدمقابلوں (حریفوں) سے ملے۔ بَدَادِ یا بَدَادِ بَدَادِ: ہر شخص اپنے اپنے مدمقابل کو پکڑے۔ جاءت الخیلُ بدادِ: گھوڑے متفرق متفرق آئے۔

۷۔ اِبْتَدَّ الرجلان فلانا بالضرب: وہ دونوں طرف سے اس کو مارنے لگے۔

۸۔ اِسْتَبَدَّ بکذا: میں آزاد ہونا، آزادطرز عمل اختیار کرنا، خود رائے ہونا، منفرد ہونا۔ — الامرُ بفلان: پر کسی بات کا بے قابو ہو جانا۔ المُسْتَبِدّ: وہ شخص جو کام شروع کرنے کے بعد اسکو ختم کئے بغیر نہ چھوڑے۔

۹۔ البُدّ و البُدَّة: قوت، حاجت۔ البُدّ: چارۂ کار، بھاگنے کی جگہ، آپ کہتے ہیں: لابُدَّ من هذا: یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں، یہ لازمی ہے، ناگزیر ہے۔

○ بَدَّ - بَدًّا: پھیلنا، منتشر ہونا، بکھرنا، الگ الگ حصوں میں بٹنا۔ بَدَّدَ ہ: کو تقسیم کرنا، پھیلانا، بکھیرنا، منتشر کرنا، دور کرنا، نکال دینا، خارج کرنا، الگ کرنا، کو ضائع کرنا، لٹانا، اُڑا دینا، وقت اور محنت ضائع کرنا، کام تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑ دینا، برباد کرنا۔ تَبَدَّدَ: بدد کا صیغہ مجہول۔ جیسے دور ہونا، نکلنا، خارج ہونا، بکھرنا، منتشر ہونا وغیرہ۔ اِسْتَبَدَّ ب: پر اپنی رائے میں آزاد ہونا، آزادی سے کارروائی کرنا یعنی خودرائے ہونا، ہٹیلا ہونا، اڑانے والا ہونا، متعصب ہونا، کا اکیلا مالک یا قابض ہونا، پر اجارہ قائم کرنا، بلاشرکت کوئی تجارت وغیرہ کرنا، خود کوئی ایسا کاروبار کرنا جس کی دوسروں کو اجازت نہ ہو، کو قبضہ میں لینا، پر گرفت کرنا، غالب آنا، کو بے بس کر دینا، بے قابو کر دینا، (احساس و جذبات کا) کو ظالمانہ انداز سے ختم کرنا، فروخت کرنا، ٹھکانے لگانا، پر جابرانہ، جبر و استبداد یا ظالمانہ طریقے سے حکومت کرنا۔ بُدّ: نکلنے کا راستہ، نجات، چھٹکارا۔ اذا لم یکن بُدٌّ مِن أن: اگر یہ بات ناگزیر ہے کہ...... لابُدَّ: معین طور پر، ٹھیک ٹھیک طور پر، ناگزیر طور پر، اٹل طور پر، یقیناً۔ لابُدَّ مِن یہ

ضروری ہے، ناگزیر ہے، اٹل ہے، مجبوری کی بات ہے۔ لابُدَّ لَهُ منه: اسے صرف یہ کرنا ہوگا، اسے محض یہ کرنا پڑے گا۔ مِن كلّ بُدٍّ: بہرحال، بہرکیف، بہرصورت۔ اَبَادِيد: بکھرا ہوا، منتشر۔ تَبْدِيد: بکھیرنا، منتشر کرنا یا ہونا، انتشار، پراگندی، ہٹانا، اٹھنا، اخراج، ضیاع، عیاشی میں اڑانا۔ استبداد: آمریت، استبدادیت، ظلم، جبر، استبداد، مطلق العنانی، ظلم و جور، جور و جبر، استبدادی حکومت، شخصی حکومت، حکومت استبداد، استبداد پسندی، شخصی حکومت کا نظریہ۔ استبدادی: ظالمانہ، آمرانہ، جابرانہ، استبدادی، خودسرانہ۔ استبدادیات: آمرانہ افعال۔ مستبد: آمرانہ، خودمختارانہ، من مانی، ظالمانہ، جابرانہ، استبدادی، خودسرانہ، ظالم، جابر، جابر حکمران، خودسر، مطلق العنان۔ مُسْتَبِدٌّ بِرَايِهِ: خودرائے، ضدی، منہ زور، سرکش، سرچڑھا، ہٹیلا۔

بدا: بَدَأَ ـ بَدْأً و ابْتَدَأ و تَبَدَّأ الشيءَ و به: کو شروع کرنا، کو پہلے کرنا۔ —— بِفلانٍ: کو آگے بڑھانا۔ ـ الشيءَ: کو شروع کرنا، پیدا کرنا۔ بَدَّأَ ہ: سے شروع کرانا، کو پہلے رکھنا، فضیلت دینا۔ البدء جمع اَبْدَاء و بُدُوء و البَدْأة و البَدَاءَة و البَدِيئَة: شروع، ابتداء۔ کہا جاتا ہے: افعَلُهُ بَدْأً و بَدْءَ بَدْءٍ و اوّلَ بدءٍ و بَادِئ بَدْءٍ و بَدْأَةَ ذی بدءٍ: میں اس کو سب سے پہلے کروں گا۔ البَدْأَة: کسی جگہ کے لئے سفر کی ابتداء۔ آپ کہتے ہیں: اكتريتُ الفرس للبداةِ والرّجعة: میں نے گھوڑے کو سفر پر جانے آنے کے لئے کرایہ پر لیا۔ المَبْدَأ جمع مَبَادِئ: اصل، سبب۔ المُبْتَدَأ: اول، پہلا، و اسم، مسند الیہ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو جیسے: اللّٰهُ بارئُ العالَم: اللہ خالق کائنات ہے۔ یہاں اللہ (مسند الیہ) مبتدأ ہے۔ باریٔ مسند (خبر) ہے۔ الإبتدائيّ: پہلا، ابتدائی۔ المحكمة الابتدائية: وہ عدالت جو ابتدائی طور پر دیوانی اور فوجداری مقدمات سننے کی مجاز ہو (Court of first instance)۔ التعليم الابتدائي: ابتدائی تعلیم Elementary education۔ الشهادة الابتدائية: ابتدائی تعلیم کا سرٹیفکیٹ Junior high school graduation certificate۔

۲۔ بَدَأَ و أَبْدَأ اللّٰهُ الخلقَ: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا۔ صفت: بَادِئ و مُبْدِئ۔

۳۔ أَبْدَأ الرجُلُ: تعجب انگیز کام کرنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مايُبدِئ و مايُعِيد: فلاں شخص کچھ بھی نہیں بولتا۔

○ بَدَأَ ـ بَدْأً ب/في ہ/ہ: کے ساتھ کو شروع کرنا، کے ساتھ کا آغاز کرنا، کو کرنا شروع کرنا۔ ——: شروع کرنا، رائج ہونا، اٹھنا، کھڑے ہونا، یکایک اٹھ بیٹھنا، دکھائی دینا، نکل آنا۔ بَدَّأَ ہ علی: کو کے سامنے رکھنا؛ کو پر ترجیح دینا، فوقیت دینا، مقدم کرنا۔ بَادَأَ ب ہ: کو شروع کرنا، کے بارے میں۔ ـــ ب ہ: کی طرف پہلا قدم اٹھانا، پیش قدمی کرنا، پہل کرنا۔ بادَأَ ہ بالکلام: کو مخاطب کرنا، سے سب سے پہلے بات کرنا۔ أَبْدَأَ ہ: کو سب سے پہلے کرنا، بنانا، نئی چیز کو واضح کرنا، شائع کرنا۔ مايُبدِئ و مايُعِيد: وہ کوئی اچھی بات کہنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ يُبدِئ و يُعِيد: وہ ہر قابل فہم بات کہتا ہے وہ ہر سمجھ میں آنے والا کام کرتا ہے۔ اِبْتَدَأ ب: کو شروع کرنا۔ بَدْءٌ: شروع، آغاز۔ منذ البَدءِ: شروع (ہی) سے۔ فعله عَوْداً و بَدْءاً یا عَوْدَهُ علی بَدْئِهِ یا عودا إلی بدءٍ: اس نے سب دوبارہ کیا اس نے نئے سرے سے شروع کیا۔ بَدْأة و بَدِيئة و بِداية: شروع، آغاز۔ في بدايةِ الأمر: شروع میں۔ بَدَاءَة: شروع، پہلا قدم۔ بَدَاءَةَ بدءٍ: شروع ہی میں۔ بُدائي: ابتدائی ادوار کا، قدیمی، قدیم۔ مَبْدَأ جمع مَبَادِئ: شروع، آغاز، نقطہ آغاز، بنیاد، اصول، ایجاد جمع اصول، یقین کامل، نظریہ، نظریاتی بنیاد یا نظام، نقطہ نظر، مبادی، بنیادی تصورات، مبادی، مبادیات۔ كتبُ المبادئ: ابتدائی کتابیں۔ مَبْدَئِي: تخلیقی، طبع زاد، ابتدائی، بنیادی، اساسی۔ مَبْدَئِياً: اصولی طور پر، دراصل، ابتداء: شروع، آغاز۔ اِبتداءً مِن: سے، سے شروع ہوتے ہوئے (جس کے بعد تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے)۔ اِبتدائي: ابتدائی، بنیادی، پرائمری، اصل، ابتدائی ادوار کا۔ مدرسة ابتدائية: ابتدائی مدرسہ Junior high school۔ پرائمری سکول۔ بادِئ: شروع کرتے ہوئے۔ بادئَ الأمر اور في بادئ الأمر: شروع میں۔ في بادئ الرای: دوبارہ غور کئے بغیر، بلا جھجک۔ بادئَ ذي بدءٍ: سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر یہ کہ، ابتدائی طور پر۔ البادئ ذكرُهُ: جس کا شروع میں ذکر کیا گیا، جس کا پہلے ذکر کیا گیا۔ مُبْتَدِئ: شروع، شروع کرنے والا، نو آموز، اناڑی۔ مُبْتَدَأ: شروع، آغاز، مسند

الیہ، جملہ اسمیہ کا مبتداء (فاعل)۔

بدح: بَدَحَ ـ بَدْحًا ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ـ بالسّرِ: راز کھول دینا۔ تَبَادَحُوا بالشيء: کو باہم مل کر پھینکنا۔ البَدْحُ جمع بُدُوح و بِداح و البَدَاح جمع بُدُح و البُدْحَة: کشادہ زمین۔

بدخ: بَدَخَ ـ و بَدُخَ ـ بَدَخًا و بَدَاخَةً: بلند مرتبہ ہونا۔ صفت: بَدِيخ جمع بُدَخاء۔ تَبَدَّخ عليه: سے بڑا بننا۔

بدر: ۱۔ بَدَرَ ـ بُدُوراً إلى الشيء: کی طرف جلدی کرنا۔ —— ہ إلى الشيء: کے لئے کسی پر سبقت کرنا۔ بَادَرَ مُبَادَرَةً و بِدَاراً إلى الشيء: کی طرف لپکنا، جلدی کرنا۔ —— الشيءَ: کو لینے کے لئے جلدی کرنا۔ ـ فلاناً الشيءَ و اليه: کے لئے کسی سے سبقت لیجانا۔ تبادَرَ القومُ: جلدی کرنا۔ اِبْتَدَرَ القوم امراً: کسی کام کے لئے ایک دوسرے سے سبقت لیجانے کے لئے آگے بڑھنا۔ بَدَارِ: اسم فعل بمعنی اسرع (جلدی کر)۔ البادِر جمع بَوَادِر: جلدی کرنے والا، سبقت کرنے والا۔ البَادِرَة جمع بَوَادِر: تیزی، شتابی تیزی کے وقت کی خفیف الحرکتی۔ کہا جاتا ہے: بَدَرَت منه بوادرُ غضب: اس سے غصہ کی حرکات سرزد ہوئیں۔ البَدَرى: مسابقت۔ کہا جاتا ہے: استبقنا البَدَرى: ہم نے سبقت لیجانے کے لئے دوڑ کی۔ المُبَادَرَة (مص): دوسروں سے پہلے کی گئی تجویز یا ان سے پہلے اس میں سبقت۔ المبادرة في الحرب: جنگ میں پہل کاری جس سے دشمن پر فتح ہو۔

۲۔ أَبْدَرَ: پر چودھویں رات کے چاند کا طلوع ہونا، چودھویں رات میں چلنا۔ البَدْر جمع بُدُور: بھرپور چاند، چودھویں رات کا چاند، تھالی، طباق۔ ليلة البدر: چاند کی چودھویں رات۔

۳۔ البَدْرَة جمع بِدَر و بُدُور: دس ہزار درہم۔ —— مِن المال: کی بڑی مالیت (کہا جاتا ہے: فلانٌ يهب البدور: فلاں شخص ہزاروں کی تھیلیاں عطا کرتا ہے)۔ ہزاروں درہموں کی تھیلی۔ البَدْرِيّ: جاڑے سے کچھ قبل ہونے والی بارش، عام لوگ کہتے ہیں: جئتُ بَدْرِي: میں علی الصبح آیا۔ البادِرة جمع بوادر: پھل کی طرف سے تیر کی نوک (کہا جاتا ہے: اصابته بادرة السهم: اس کو تیر کی نوک لگی) مونڈھے اور گردن کے درمیان کا گوشت۔ البَيْدَر جمع بَيَادِر (ز): کھلیان۔

○ بَدَرَ ـ بدرا: غیر متوقع طور پر آجانا، اچانک آجانا۔

ـــ من: جوش میں کسی کے منہ سے کوئی بات نکل جانا۔ بَـــادَرَہٗ: اچانک کسی کے ذہن میں آنا، کسی کو سوجھنا (خیال وغیرہ کا کسی کو اچانک آنا، کو خیال آنا۔ ـ اِلی: کوئی کام شروع کرنا، کسی کام کا آغاز کرنا، بلا تاخیر کوئی کام کرنے کے لئے روانہ ہونا، کسی کے پاس یا کسی جگہ تیزی سے جانا۔ ـــ ب: کوئی کام عجلت سے کرنا۔ ـ اِلی: (مصدر سے پہلے): کوئی کام مستعدی سے یا بلا تاخیر کرنا، کوئی کام کرنے میں جلدی کرنا۔ ـ ہ ب: پر (دشمنی) سے حملہ کرنا، کسی چیز سے کسی کو مخاطب کرنا، کو مارنا، پر چڑھ دوڑنا، بوچھاڑ کرنا، یکایک آلینا۔ مثلاً بــادرہ بـکلام غلـیظ: کو بدتمیزی سے دوٹوک جواب دینا۔ ـ اِلی: کا ردعمل ہونا، کا نتیجہ ہونا، کا اثر ہونا، سے متاثر ہونا۔ بــادر إلـى انجـاز الوعد: وعدہ پورا کرنے میں جلدی کرنا۔ تَبَـــادَرَ إلَـــى الذهن: خیال آنا، واضح ہونا۔ ـــ ان: پہلی اچٹتی ہوئی نظر ڈالنے پر لگنا جیسے: تبـادر الـى ذهـنـى أن: مجھے اچانک خیال آیا کہ...... تبـادر الـى الفهـم: فوری طور پر سمجھ میں آنا۔ اِبْـتَدَرَ ہ: کسی جگہ جلدی جانا۔ ـــــ ہ: کے آگے ہونا، کی پیش بندی کرنا۔ ابتدرها قائلا: اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ سکتی وہ پکار اٹھا۔ بَدَرَاتُ الاموال: بڑی بڑی رقوم۔ بـادِرَۃ جمع بَـــوَادِر: نقیب، پیش خیمہ، پیش رو، مستقبل کی نشاندہی کرنے والی چیز، پہلی علامت، نشانی یا دلیل، غیر متوقع یا نامعلوم عمل، غصہ وغیرہ کی ہیجان خیز لہر یا دورہ، غلطی۔ بَـــوَادِر: تحریکیں، لہریں، ترنگیں، جذبے۔ بـادرۃ خـیر: اچھی یا فیاضانہ لہر، ترنگ یا من کی موج۔

○ بدروم و بدرون جمع بـدرومات: تہ خانہ (ترکی لفظ)۔

بدع: ا۔ بَدَعَ ـ بَدْعًا الشـیءَ: کو ایجاد کرنا، بغیر نمونہ بنانا۔ ـــ ہ: کو شروع کرنا، کی ابتدا کرنا، بنانا، وجود میں لانا، پیدا کرنا۔ بَدُعَ ـ بَدْعًا و بَدَاعَۃً و بُدُوعًا: لاثانی ہونا، بے مثل ہونا۔ أَبْدَعَ و اِبْتَدَعَ الشـیءَ: کو وجود میں لانا، بنانا، پیدا کرنا۔ تَبَدَّعَ: بدعتی ہونا۔ اِسْتَـبْدَعَ الشـیءَ: کو عجیب و نادر سمجھنا۔ البِدْع جمع أَبْدَاع و بُدُع: انوکھا، ناتجربہ کار (کہا جاتا ہے: فـلانٌ بـدع فـی الامر: فلاں شخص نے اس کام کو پہلی بار کیا)۔ ـــ من الرجال: ناواقف، جو امور کو نہ آزماتا ہو۔ البِـدْعَۃ جمع بِـدَع: چیز جو کسی سابق مثال کے بغیر بنائی جائے۔ (مذہب میں: نئی رسم)۔ البَدِیع: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک (کہا جاتا ہے: اللّٰہ بدیع السماوات و الارض: اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے)، انوکھی چیز، انوکھی چیز بنانے والا۔ الإبْــــداع والابتــــداع: (دانا لوگوں کے نزدیک) ایسی چیز کو وجود میں لانا ہے، جو مادہ اور زمانہ کے لحاظ سے بے مثل ہو۔

۲۔ بَدَّعَہٗ: کو بدعتی ٹھہرانا۔ أَبْدَعَ و اِبْتَدَعَ الرجلُ: بدعت کا مرتکب ہونا۔ البِدْعَۃ جمع بِدَع: نیا مخالف ایمان عقیدہ۔ المُبْتَدِعُون: بدعتی لوگ۔

۳۔ ابْدَعَ: کسی کام کو عمدگی سے کرنا۔ عـلم البدیع: وہ علم جس سے کلام کی لفظی و معنوی خوبیاں معلوم ہوں۔

۴۔ اِسْتَبْدَعَ الشیءَ: کو عجیب و نادر سمجھنا۔ البِدع: تعجب۔ کہا جاتا ہے: لابـدع من ذلك: اس بات سے کوئی تعجب نہیں۔

۵۔ أَبْدَعَ بہ: کو بے مدد چھوڑ دینا۔ البَدِیع: موٹا، نئی مشک۔

○ بَدَعَ ـ بَدْعًا ہ: کو متعارف کرانا، وجود میں لانا، شروع کرنا، پہلی دفعہ کرنا، کوئی کام پہلی دفعہ کرانے والا ہونا، ایجاد کرنا۔ بَـــدَّعَ ہ: کو بدعتی ہونے سے متہم کرنا، پر مسیحی عقائد کے خلاف اور خلاف شرع ہونے کا الزام لگانا۔ أَبْـــدَعَ ہ: کو متعارف کرانا، وجود میں لانا، پہلی دفعہ کرنا، ایجاد کرنا، کو سب سے پہلے کرنے والا ہونا، کو پیدا کرنا، کی تخلیق کرنا۔ ـــ فی: میں بے مثال اور عمدہ نتائج حاصل کرنا، میں ممتاز اور حیران کن ہونا۔ اِبْتَــــدَعَ ہ: کو ایجاد کرنا، اختراع کرنا۔ اِسْتَبْــــدَعَ ہ: کو بے مثل سمجھنا، انوکھا یا نادر سمجھنا۔ بَـــدْع: نیا خیال، نیا طریقہ، نئی چیز، نئی بات، انوکھا ہونا، نرالی چیز، تخلیق۔ بَـــدْعًـــا و عَـوداً: بار بار۔ بِـــدع جمع ابــداع: نیا خیال رائج کرنے والا، نئی بات پیدا کرنے والا، نیا، اصلی، بے مثل، بے نظیر، فقید المثال، انوکھا، نرالا، عجیب۔ لابِـــدَع: کوئی تعجب نہیں۔ لابِـــدَعَ اَن: کوئی تعجب نہیں کہ۔ بِـــدْعٌ مِـــن: کے علاوہ کوئی چیز، سے مختلف۔ بِـــدْعَۃ جمع بِـــدَع: نیا خیال، نیا طریقہ، نئی چیز، نئی بات، انوکھی چیز، انوکھی بات، عجیب شئے، انوکھا پن، بدعتی یا ملحدانہ عقیدہ، بدعت، کفر، جمع (فیشن، فن کی) تخلیقات۔ اهـل و البِـدَع: ملحد لوگ، بدعتی لوگ، مذہب کے مسلمہ عقائد کے مخالفین۔ بـدیع: بے نظیر، بے مثل، انوکھا، نرالا، نادر، عجیب، مافوق العادت، تعجب خیز، حیرت انگیز، قابل تعریف، نہایت عمدہ، یکتا، لاجواب، لاثانی، خالق۔ علم البدیع: کنایوں، استعاروں اور تشبیہوں کا فن یا علم (عام طور پر) عمدہ اسلوب کا فن یا علم۔ بَـدِیعَۃ جمع بَـدَائع: حیران کن اور تعجب انگیز چیز، عجیب و غریب چیز، حیرت انگیز واقعہ، عجوبہ، حیرت انگیز نمونہ، حیرت، تعجب، اچنبھا، معجزہ، حیرت انگیزی، ابتدائی تخلیق۔ بَدِیعی: خطیبانہ، فصیح و بلیغ، پرجوش، ولولہ انگیز۔ أَبْـــدَع: زیادہ تعجب انگیز، زیادہ حیران کن، زیادہ عجیب و غریب، زیادہ غیر معمولی، زیادہ جدت، اختراع یا اصلیت کا حامل۔ اِبْـــدَاع: تخلیق، ڈھالنا، متشکل کرنا، صورت گری، حیرت انگیز اور یکتائے روزگار کامیابی، منفرد یا بے مثل ہونا، انوکھا پن، یکتائی، تخلیقی قوت، تخلیقی صلاحیت۔ اِبْدَاعی: رومانی یا تخیلی (ادب)۔ اِبْـــدَاعِیَۃ: رومانی طرز تحریر، رومانیت۔ مُبْـــدِع: تیار کرنے والا، تخلیق کرنے والا، تخلیقی، خالق، استثنائی، غیر معمولی، منفرد، بے مثال، فقید المثال، ممتاز (فن کار وغیرہ)۔ مُبْتَـــدِع: نیا خیال رائج کرنے والا، نئی بات پیدا کرنے والا، خالق، کافر، بدعتی۔

بدغ: بَدِغَ ـ بَدَغًا: زمین پر گھسٹنا۔ ـــ بـالشرّ او بـالاقـذار: برائی یا گندگی سے آلودہ ہونا۔ بَدَغَ ـ بَدْغًا الجوزَ او اللوزَ: اخروٹ یا بادام توڑنا۔

بدل: بَدَلَ ـ بَدْلاً الشیءَ: کو بدلنا، کو بدلہ میں لینا۔ اَبْـدَلَ الشـیءَ منہ: کو سے بدلہ میں لینا۔ بَدَّلَہٗ: کو بدلنا۔ ـ الشیءَ منہ: کو سے بدلہ میں لینا۔ ـ الشیءَ شیأً آخر: کو دوسری چیز سے بدل دینا۔ کہا جاتا ہے: بَـدَّلَ الـلّٰہ الخوف امْنًا: اللہ تعالیٰ نے خوف کو امن سے بدل دیا۔ بَادَلَـہٗ بِکذا: کو کے تبادلہ میں دینا۔ تَبَدَّلا و تَبادَلا ثوبیهما: دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے کپڑوں کے بدلے دوسرے کے کپڑے لئے۔ تَبَدَّلَ: بدل جانا، متغیر ہونا۔ ـ ہ بکذا: کو کی جگہ، کے بدلہ میں لینا۔ جیسے: تبـدلت الدارُ بِاُنسِـها وحشاً: گھر کی انسیت وحشت سے بدل گئی۔ اِسْتَبْدَلَہٗ بِکذا: کو کی جگہ لینا، کو کے بدلہ میں لینا۔ البِـدْل و البَدَل و البَدِیل جمع أَبْدَال و بُدَلاءَ: بدلہ، عوض، جانشین۔ الأَبْدَال: لوگوں کی رائے میں وہ صالح لوگ جن سے دنیا کبھی خالی نہیں رہتی جب ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی جگہ دوسرے کو قائم مقام بنا دیتا ہے۔

۲۔ بَـدِلَ ـ بَـدَلاً: ہڈیوں یا جوڑوں میں درد والا ہونا۔ البَـدَل (طـب): جوڑوں، ہاتھوں یا ہڈیوں کا درد۔ اسی سے ہے: رُبَّ بَـدَلٍ شرٌّ من بَدَلٍ: بہت سے

عوارض ہڈی کے درد سے زیادہ برے ہیں۔

۳۔ البَذْل و البَدَل و البَدِیل جمع اَبْدال و بُدَلاء: فیاض، شریف۔ کہاجاتا ہے: رجلٌ بَذْلٌ و بَدَلٌ مرد شریف۔ البَدْلَۃ: کپڑوں کا جوڑا۔ البَدّال: کھانے کی چیزیں بیچنے والا، عام لوگ اسے بقّال کہتے ہیں۔

ت ۔۔ ہ ب: کو کی جگہ لینا یا رکھنا، کو سے بدلنا، ادلا بدل کرنا۔ بَدَّلَ ہ ہ: کو میں تبدیل کرنا۔ — ہ ب — کو کی جگہ رکھنا، کو کا قائم مقام بنانا، کو سے بدلنا، کو کے بدلہ میں دینا۔ — ہ: کو بدلنا، تبدیل کرنا۔ ب ۔۔ : ہ کے ساتھ کوئی چیز ادلا بدلی کرنا۔ اَبْدَلَ ہ ب کو کی جگہ لینا یا رکھنا، کے بدلہ میں کوئی اور چیز دینا۔ — : ب ہ کو کے عوض کوئی دوسری چیز دینا۔ — ہ ہ ب کو کوئی چیز کسی چیز کے بدلہ میں دینا۔ تَبَدَّلَ: تبدیل ہونا، ادلا بدلی ہونا۔ تَبَادَلَ ہ: کا تبادلہ کرنا (جیسے لفظوں، خیالات، تہنیت کا)۔ اِسْتَبْدَلَ ہ ب/ب ہ: کو سے بدلنا، کو کے بدلہ میں لینا، کا سے تبادلہ کرنا، چیز کے بدلے چیز کا لین دین کرنا، مبادلہ کرنا، کو کی جگہ لینا یا رکھنا، کو کا قائم مقام بنانا۔ بَدَل جمع اَبْدَال: بدل، قائم مقام، قائم مقامی، جانشینی، عوضی، ہم پلہ، ہم قیمت، ہم پایہ، معاوضہ، بدلہ، عوض، پاسنگ، ادائیگی، تلافی، بے باقی، ہرجانہ، الاؤنس، وظیفہ، قیمت، شرح، گرامر: بدل۔ بدلُ الجرایۃ: خوراک کے لئے وظیفہ۔ بدلُ السفریۃ: سفری الاؤنس۔ بدلُ الاشتراك: چندہ۔ بدل التمثیل: خرچ الاؤنس۔ بَدَلَ: کے عوض، کے بجائے، کی جگہ، کے بدلہ میں۔ بَدَلاً مِن: کی جگہ، کے عوض کے بدلہ میں۔ بَدْلَۃ جمع بَدَلات و بِدَل: (کپڑوں کا) جوڑا، پوشاک، لباس، پہناوا۔ بدلۃُ الحمّام: غسل کا لباس۔ بدلۃ رَسْمِیَّۃ: یونیفارم، وردی۔ بدلۃ تشریفاتیۃ: فل ڈریس یونیفارم۔ بَدَلِیَّۃ: معاوضہ۔ بَدَالَ: کے بجائے۔ بَدَالَ مَا: (ہونے کرنے وغیرہ) کے بجائے۔ بَدِیل جمع بُدَلاء من/عن: کا بدل، قائم مقام مونث: بدیلۃ۔ مَفْرَزَۃٌ بَدِیلَۃٌ: فوج کا ریزرو دستہ۔ بَدّال: پنساری، کریانہ فروش، ریزگاری فراہم کرنے والا۔ بَدّالَۃ: زمین دوز بدرو، نظام بہم رسانی، ٹیلیفون ایکسچینج، سنٹرال۔ مُبَادَلَۃ جمع مُبَادَلات: ایکسچینج و حصص مارکیٹ۔ مبادلات تجاریۃ: تجارتی مبادلہ، تجارتی تعلقات۔ تبادل: باہمی مبادلہ، تبادل السلام: تہنیات کا تبادلہ۔ تبادل الخواطر: تبدیلیٔ خیالات، ٹیلی پیتھی telepathy۔ مُبَدِّل الاسطوانات: خودکار ریکارڈ بدلنے والا آلہ automatic record changer۔ متبادل: باہمی، باہمدگر، مشترک، مشترک۔

بدن: ا۔ بَدَنَ ـ بَدَنًا و بُدْنًا و بُدُونًا و بَدُنَ ـ بَدَانَۃً و بَدَانًا: فربہ بدن ہونا، موٹے بدن والا ہونا، صفت مذکر بادِن صفت مونث: بادن و بادنۃ جمع بُدَّن و بَدِین جمع بُدْن۔ البَدَن جمع اَبْدان: جسم۔ البَدَنۃ: فربہ بدن اونٹنی یا گائے۔ المِبدان و المُبَدَّن: فربہ، موٹا، موٹے جسم والا۔

۲۔ بَدَّنَ: بڑی عمر والا ہونا۔

۳۔ بَدَّنَہُ: کو زرہ پہنانا۔ البَدَن جمع بُدُون: چھوٹی زرہ۔ البَدَنۃ: عورتوں کی آستین کے بغیر قمیص۔

ت بَدَن جمع اَبْدان و اَبْدُن: جسم، تن، دھڑ۔ بَدَنِی: جسمانی، مجسم، جسمی۔ بَدِین جمع بُدْن: مضبوط، قوی، شہ زور، موٹا، فربہ، جسیم، موٹا تازہ، توندل، توند والا، لحیم شحیم۔ بُدُونَہ: فربہی، موٹاپا، ڈیل ڈول۔ بادِن جمع بُدْن: مضبوط، قوی، موٹا، فربہ، جسیم۔

بدہ: ا۔ بَدَہَ ـ بَدْهًا و بَادَہَ الرجلَ: کے پاس اچانک آنا صفت مذکر: بادِہ صفت مؤنث: بادِہَۃ جمع بَوَادِہ۔ البُداہۃ و البَداہۃ: بیساختگی، اچانک یا بے خبری میں جالینا۔ البَدِیہۃ جمع بَدَائِہ: اچانک یا بے خبری میں جالینا، بیساختگی۔ المِبْدَہ: اچانک، غیر متوقع، اچانک یا بے خبری میں جالینے والا۔

۲۔ تَبَادَہُوا الشعرَ او الخُطَبَ: بلاتامل و فکر باہم شعر پڑھنا یا تقریر کرنا۔ اِبْتَدَہَ الخطبۃَ: بلاتامل و فکر تقریر کرنا صفت: مُبْتَدِہ و مُبْدَہ۔ بدیہاً و علی البدیہۃ: بے سوچے، بلاتوقف۔ البَدِیہۃ جمع بَدَائِہ: طویل غور و خوض کا فقدان۔ کہا جاتا ہے: اجاب علی البدیہۃ: اس نے غور و فکر کے بغیر جواب دیا۔ ہذا معلوم فی بَدَائِہِ العقول: یہ تو بغیر سوچے سمجھ میں آتا ہے۔ لفلان بدائہ فی الکلام: فلاں کی گفتگو عجیب و غریب ہے۔ فلانٌ ذو بدیہۃ: فلاں شخص اپنے سپرد کیا جانے والا کام فوراً سمجھ جاتا ہے۔ البَدِیہی: فوری۔ المِبْدَہ: فی البدیہ بولنے والا، تقریر کرنے والا۔

۳۔ البُداہۃ و البَداہۃ: ہر شے کا اول، شروع کہا جاتا ہے: لحقہ فی بداہۃ جریہ [illegible] شروع ہی میں اس سے جاملا۔ البَدِیہِی: عقل کی نظر میں ضروری۔ البدیہیات (عند العلماء): مسلمات، اولیات، صاف سچائیاں۔

ت بَدَہَ ـ بَدْهًا ہ: کے پاس اچانک آجانا، پر اچانک آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، حملہ کرنا، غیر متوقع طور پر واقع ہونا۔ — ہ ب کو سے حیران کردینا، بھونچکا کردینا۔ بَادَہَ ہ ب کے سامنے کیساتھ اچانک آنا یا غیر متوقع طور پر آنا۔ اِبْتَدَہَ ہ: کو برجستہ کرنا، فی البدیہ (شعر وغیرہ) کہنا، (نغمہ سرائی وغیرہ) کرنا، (تقریر وغیرہ) کرنا، کو تیاری کے بغیر یا بیساختہ کرنا، کو وہیں، جھٹ، یا وقتی جذبے کے تحت کرنا۔ بَدَاہَۃ: بیساختگی، آپ سے آپ، اپنے آپ یا خود بخود یا بیساختہ وقوع، تحریک، لہر، ترنگ، جذبہ، سادہ طبعی طریقہ، حقیقی پن، قدرتی پن، برجستگی، بے ساختگی، کام کی بات۔ بَدَاہَۃً و بالبداہۃ: آپ سے آپ، اپنے آپ، خود بخود، بیساختگی سے۔ بَدِیہَۃ: کوئی اچانک یا غیر متوقع چیز، وہیں بنا دینا، تحریک، جذبہ، لہر، ترنگ، تخلیقی تحریک، بیساختہ وجدان، وجدانی فہم یا بصیرت، فطری یا جبلی ادراک یا وسعت نظر، عقلی یا شعوری صلاحیت۔ علی البدیہۃ: برجستگی سے، خود بخود، بیساختہ، تیاری کے بغیر۔ حاضر البدیہۃ: زودفہم، حاضر جواب۔ بدہۃٌ حاضرۃ: ہوشمندی۔ بَدِیہِی و بَدَہِی: وجدانی، صاف، ظاہر، بدیہی۔ بَدِیہِیَّۃ جمع بدیہیات: بدیہیات یا اولیات میں سے ایک ایک بدیہی، بنیادی، صاف سچائی، پیش یا افتادہ، حقیقت، عام بات جو ہر ایک جانتا ہو، فرسودہ صداقت۔ بَدَائِہ: بنیادی یا صاف سچائیاں۔

بدا: ا۔ بَدَا ـ بُدُوًّا و بَدَاءً و بَدْوًا و بَدَاءَۃً: ظاہر ہونا صفت: بادٍ جمع بادُون و بُدًّى و بُدَّى۔ بَادَی ہُ: کو واضح کرنا، کے آثار ظاہر کرنا۔ — بالعداوۃ: دشمنی ظاہر کرنا۔ اَبْدَی الامرَ: کو ظاہر کرنا۔ تَبَدَّی: ظاہر ہونا۔ تبادی القوم بالعداوۃ: دشمنی ظاہر کرنا۔ بَدَاوۃُ الامر: معاملہ کا سب سے پہلے ظاہر ہونے والا حصہ۔

۲۔ بَدَا ـ بُدُوًّا و بَدَاءً و بَدْوًا و بَدَاءَۃً لہ فی امر: کے بارے میں رائے سوجھنا۔ البَدَاءۃ جمع بَدَوات: رائے۔ البدوات: مختلف آراء۔

۳۔ بَدَا ـ بَدَاوَۃً و بِدَاوَۃً و تَبَدَّی: صحرا کی طرف نکل جانا، بادیہ میں اقامت کرنا، بدوی ہونا۔ تَبَادَی: بادیہ نشینوں سے مشابہ ہونا۔ البَدْو: خانہ بدوش عرب قبائل، بدو کی طرف نسبت کیلئے: بَدْوِی

: بَدَوِیّ مونث بدویۃ جمع بَدَاوِی۔ البادیۃ و البِدَاوَۃ جمع بَادِیات و بَوَاد: صحراء، جنگل۔

۴۔ بَادَاہُ: سے مقابلہ کرنا۔

۵۔ اَبدٰی فی کلامہ: اپنے کلام میں فریادرسی چاہنا۔ کہا جاتا ہے: ابدیتَ فی منطقکَ. تونے اپنی گفتگو میں فریادرسی چاہی، اسی سے ہے: السلطان ذو عدوان و ذو بَدَوان سلطان لوگوں کے خلاف جارحیت کرتا ہے اوران پر ظلم کرتا ہے۔

۶۔ البَدْوَۃ: وادی کا کنارہ۔ البَدَاۃ جمع بَدَوات: کھمبی، مٹی۔

⭘ بدو۔ بَدَا ۔ بُدُوًّا: دکھائی دینا، نظر آنا، عیاں ہونا، ظاہر ہونا، صاف ہونا، واضح ہونا، آشکار ہونا، معلوم ہونا، پتہ چلنا۔ ــ ل کو اچھا، قابل قبول یا مناسب معلوم ہونا۔ بَادٰی: دکھانا، ظاہر کرنا، کا ثبوت دینا، انکشاف کرنا، کھلم کھلا اعلان کرنا۔ بَادٰی بالعداوۃ کھلی دشمنی دکھانا۔ اَبدٰی ہ: کوافشا کرنا، منظر عام پر لانا، واضح کرنا، ظاہر کرنا، کا انکشاف کرنا، دکھانا، کا ثبوت دینا، کی توضیح کرنا، کا اظہار کرنا، فاش کرنا، آشکارا کرنا، بیان کرنا، غصہ سے کہنا۔ ابدی رایہ فی: کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ اَبدٰی رغبۃً: خواہش یا آرزو ظاہر کرنا۔ تَبَدّٰی: بمعنی (بدا یبدو) نیز: صحرا میں رہنا۔ تَبَادٰی: اپنے آپ کو بدو ظاہر کرنا۔ بَدْو: صحراء، خانہ بدوش، بدوی لوگ۔ بَدْوِی: بدوی، خانہ بدوش، دیہاتی، بدو۔ بَدْوِیَّۃ جمع بدویات: بدو عورت، بدو لڑکی۔ بَدَاۃ جمع بَدَوات: لہر، موج، ترنگ، خیال، وہم، من کی موج، وسواس، گمان، تخیل کی جولانی، برا مذاق۔ بَدَاوَۃ و بِداوۃ: صحرائی زندگی، بدوی زندگی، خانہ بدوشی، بدویت۔ بَیْدَاء: صحراء سرد یا لق ودق صحراء، غیر آباد علاقے۔ اِبداء: اظہار، اعلان، مظاہرہ، واضح بات، صاف اظہار۔ بَادٍ: ظاہر، واضح، مرئی، جو دیکھا جاسکے، صحراء میں رہنے والا جمع بُدَاۃ: بدو لوگ۔ بَادِیَۃ: صحراء، سرد یا لق ودق صحراء، نیم صحراء، کاشتکاروں کا طبقہ جمع بَوَادٍ: خانہ بدوش، بدو لوگ۔ بِدَایۃ: دیکھو بداوۃ۔

بَذّ: ۱۔ بَذَّ ۔ بَذَاذًا و بَذَاذَۃً و بُذُوذَۃً: بدحال ہونا، شکستہ حال ہونا صفت: بَاذّ مونث بَذّۃ و بَاذّۃ۔ کہا جاتا ہے: فلان بَذُّ الھیئۃ فلاں شخص شکستہ حال ہے۔ بَذُّ البخت: بدبخت۔

۲۔ بَذَّ ہ: پر غالب آنا، فوقیت و برتری رکھنا۔ بَذَّہ پر سبقت لیجانا، سے ناموری میں مقابلہ کرنا۔ البَذّ و البَذِیذ: مثل۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ فَذٌّ بَذٌّ یکتائے زمانہ شخص۔

۳۔ اِبتَذَّ منہ حقَّہ: سے اپنا حق لینا۔

⭘ بَذَّ ۔ بَذّاہ: کا بہترین حصہ لینا، کو شکست دینا، سے بازی لیجانا، پر سبقت لیجانا، سے بڑھ جانا۔ بَذّ و بَاذّ: پھوہڑ، بے سلیقہ، گندا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، غلیظ، گھناؤنا، خستہ حال۔ بَذَاذَۃ: پھوہڑپن، بے سلیقگی، گندگی، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہونا، غلاظت۔

بذا: ۱۔ بَذَاَ ۔ و بَذِیَ ۔ و بَذُؤَ ۔ بَذَاءً و بَذَاءَۃً: فحش گو ہونا، بے وقوف ہونا صفت: بَذِیّ۔ کہا جاتا ہے: أرضٌ بَذِیئۃ: گھاس نہ اگانے والی زمین۔ اَبْذَاَ: فحش بکنا۔ بَاذَاہُ: سے فحش کلامی کرنا۔ البَذَاءَۃ: فحاشی، زبان کی خرابی۔

۲۔ بَذَاَ ۔ بَذْاً الشیءَ: کو ناپسند کرنا۔ ــ الشخصَ و علی الشخص: کو حقیر جاننا، کی مذمت کرنا۔ بَاذَاہُ: سے جھگڑنا۔

⭘ بَذَاَ ۔ بذأ علی: کو گالیاں دینا، کو کوسنے دینا، برا بھلا کہنا۔ بَذِیَ ۔ بَذُوَ ۔: فحش ہونا، ناشائستہ ہونا، اخلاق سے گرا ہوا ہونا، بیہودہ ہونا، واہیات ہونا۔ بَذِیّ: نفرت انگیز، قابل نفرت، کریہ، گھناؤنا، گندا، غلیظ، فحش، ناشائستہ، اخلاق سے گرا ہوا؛ بیہودہ، واہیات، بدزبان، کفر بکنے والا۔ بَذَاء و بَذَاءَۃ: فحاشی، فحش کلامی، بدزبانی، کفر بکنا، فحش اشارہ؛ زبان کی خرابی، کراہت، تنفر، نفرت، بیزاری، حقارت، ذلت، سبکی، توہین، تذلیل۔

بذح: بَذَحَ ۔ بَذْحًا ہ: کو پھاڑنا، چیرنا۔ ــ الجلدَ عن العرق: سے کھال ہٹانا۔ تَبَذَّحَ السحابُ: بادل کا برسنا۔ البَذْح جمع بُذُوح: پھٹن۔ کہا جاتا ہے: فی رِجلِہ بُذُوحٌ اس کے پاؤں میں بوائی ہے۔ البَذْح: ہاتھ کی خراش۔

بذخ: بَذِخَ ۔ بَذَخًا و بَذَخَ ۔ بَذْخًا و بَذَخَ ۔ بَذَاخَۃً و تَبَذَّخَ: بلند ہونا، تکبر کرنا، بڑی شان والا ہونا صفت: بَاذِخ جمع بَوَاذِخ و بَذِیخ جمع بُذَخَاء: متکبر بلند۔ کہا جاتا ہے: شرف باذخ: شرف بلند۔ جبالٌ بَوَاذِخ: اونچے پہاڑ۔ بَاذَخَہُ: سے ناموری میں مقابلہ کرنا۔ البَذَّاخ: متکبر۔

⭘ بَذَخ: غرور، تکبر، عیش وعشرت، ناز ونعمت، شان و شوکت، طمطراق، شان وشکوہ، احتشام، دھوم دھام۔

بذر: بَذَرَ ۔ بَذْرًا الحَبَّ (ز): بیج بونا۔ ــ تِ الأرضُ: زمین کا نباتات اگانا۔ البَذْر جمع بُذُور و بِذَار (ز): بیج، نسل، اولاد۔ کہا جاتا ہے: انہ بذر سوء: وہ بری نسل کا ہے۔

۲۔ بَذَرَ ۔ بَذْرًا المالَ: مال فضول خرچی میں اڑانا۔ بَذَّرَ المالَ: مال فضول خرچی میں اڑانا، صفت: بَذِر و تِبذار و تِبذارۃ۔ تَبَذَّرَ و اِبْذَرَّ: متفرق ہونا۔ بَذَر و بِذَر کہا جاتا ہے: ذھبوا شَذَرَ بَذَرَ و شِذَرَ بِذَرَ: وہ ہر طرف منتشر ہوگئے۔ البَذِر و البَذَّار و البَیْذَرۃ و التِبذار: فضول خرچی کرنے والا۔

۳۔ بَذَرَ ۔ بَذْرًا العِلمَ: علم پھیلانا، علم کی اشاعت کرنا۔ البَذِر و البَیْذَار و البَیْذَارۃ و التِبذار: بہت باتونی۔ البَذُور و البَذِیر جمع بُذُر: چغل خور، راز نہ چھپا سکنے والا۔

۴۔ تَبَذَّرَ الماءُ: پانی کا متغیر ہوکر پیلا پڑ جانا۔

۵۔ بَذْرَق: پاسبانی کرنا، حفاظت کرنا صفت: مُبَذْرِق۔ ــ المالَ: مال بکھیرنا، مال میں فضول خرچی واسراف سے کام لینا۔ مُبَذْرِق: دربان، محافظ، راہبر۔

⭘ بَذَرَ ۔ بَذْرًا ہ: کوئی چیز بونا، (بیج) بونا، تخم ریزی کرنا، کوئی چیز بکھیرنا، کو شہرت دینا، مشتہر کرنا، کی اشاعت کرنا، کو پھیلانا۔ بَذَّرَ ہ: کو برباد کرنا، تباہ کرنا، پامال کرنا، ضائع کرنا، تلف کرنا، میں فضول خرچی کرنا، کو پھوہڑپن سے استعمال کرنا، کو لٹانا، اڑا دینا، میں اسراف کرنا، کو منتشر کرنا، ضائع کرنا۔ بَذْر جمع بُذُور و بِذَار: بیج، پنیری، جمع بُذُور: پھولوں کے گچھے کی کلیاں، گٹھلیاں۔ بَذْرَۃ: بیج، دانہ گلی، گٹھلی، جرثومہ، نقطہ آغاز۔ بِذَار: پودے کے بیج بونے کا وقت۔ تَبذِیر: مال اُڑانا، اسراف، فضول خرچی، عیاشی میں اڑانا۔ مُبَذِّر: فضول خرچی کرنے والا، مال اڑانے والا، عیاشی میں اڑانے والا، فضول خرچ۔

بذع: ۱۔ بَذَعَہ ۔ بَذْعًا: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا۔ اِبْذَعَہ: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا۔

۲۔ بَذَعَ ۔ الاناءُ: برتن کا ٹپکنا۔ البَذْع: برتن سے ٹپکا ہوا پانی۔

بذق: البَاذَق و البَاذِق: قدرے پکا ہوا اور نشہ آور انگور کا شیرہ۔

بذل: ۱۔ بَذَلَ ۔ بَذْلاً الشیءَ: کو دینا، کی سخاوت کرنا۔ کہا جاتا ہے: بذل نفسہ دونَ او عن فلان: اس نے فلاں شخص کی حمایت میں اپنی جان لڑا دی، اس نے اپنے آپ کو اس پہ فدا کر دیا۔ صفت: بَاذِل و بَذُول صفت مفعولی: مَبذُول۔ ــ جُھدَہ: اپنی پوری کوشش کرنا۔ البَذل عطا

بخشش۔ رجلٌ بذلٌ: فیاض آدمی۔ البذّال و المِبذال: بڑا فیاض، بہت دادودہش کرنے والا۔

۲۔ بَذَلَ ـُ و ابتذَل الثوبَ: کام کے وقت کپڑے پہننا یا ہر روز کپڑے پہننا اور استعمال کر کے فرسودہ کرنا۔ اِبتذَل: پرانے کپڑے پہننا۔ البِذلة من الثیاب: روزانہ پہننے کے کپڑے۔ المِبذَل و المِبذَلة جمع مَبَاذِل: روزانہ پہننے کے کپڑے، پھٹا پرانا کپڑا۔ کہا جاتا ہے: جاء فلان فی مباذِله: فلاں شخص اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا۔ مُبتذَل: کثیرالاستعمال۔ کہا جاتا ہے: کلام مُبتذَل: ردی رکیک کلام، گھٹیا کلام، کثیرالاستعمال کلام۔ سیفٌ صَدِئٌ المُبتذَل: تیز دھار والی تلوار۔

۳۔ تَبَذَّلَ و ابتذل: وقار سے گرا ہوا ہونا، چھچھورا ہونا۔

○ بَذَلَ ـُ بَذلاً ہ: کو آزادی یا سخاوت سے دینا یا خرچ کرنا، کی قربانی دینا، کو خرچ کرنا، صرف کرنا، پیش کرنا، عطا کرنا۔ بَذَلَ جُهدَه: (کسی کام میں) بڑی محنت اور کوشش کرنا۔ بَذَلَ مَجهُودَه: (کسی کام میں) بڑی محنت اور کوشش کرنا۔ بَذَلَ کلَّ مُساعَدةٍ: ہر امداد دینا۔ بَذَلَ المساعی: کوششیں کرنا۔ بَذَلَ الطاعةَ لِ: کا حکم ماننا، کا پاس لحاظ کرنا۔ بَذَلَ کلَّ غالٍ و بَذَلَ الغالی و الرخیص فی سبیل ـ: کے لئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرنا، ہر طرح کی کوشش کرنا، ہر قیمت ادا کرنا۔ بَذَلَ ماءَ وجهِهِ: اپنی عزت داؤ پر لگانا۔ بَذَلَ نفسه دون فلان یا عن فلانٍ: کے لئے اپنا آپ قربان کر دینا۔ بَذَلَ وُسعَهُ: مقدور بھر کوشش کرنا۔ تبذّل: اپنی دولت اُجاڑ دینا، ضرورت سے زیادہ سخاوت کرنا، (عورت کا) عصمت فروشی کرنا، عام بازاری اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ ابتذل ہ: کو عام خدمت میں خستہ کر دینا، پرانا کرنا، سوقیانہ کرنا، (پامال مضامین) پر گفتگو کرنا، کی حیثیت بگاڑ دینا، کو بے وقعت کرنا، کا غلط استعمال کرنا۔ ـــــ: بازاری انداز میں اظہار خیال کرنا، بازاری زبان استعمال کرنا۔ ابتذل نفسه: خود کو ذلیل کرنا، خوار کرنا، اپنی منزلت کی قربانی دینا۔ بَذل: دینا، خرچ کرنا، قربانی، اطاعت، دست برداری، خرچ، پیش کرنا، عطا کرنا۔ بِذلة: کپڑوں کا جوڑا۔ مِبذل جمع مَبَاذِل: سلیپر۔ مَبَاذِل: گھر میں پہننے کے کپڑے۔ فلانٌ فی مَبَاذِله: فلاں شخص اپنی نجی زندگی میں۔ ابتذال: فرسودگی، عامیانہ پن، خواہیت، عمومیت، کھلی ہوئی حقیقت، پیش پا افتادہ امر، معمولی بات، سبکی، بے قدری، رسوائی، ذلت، خفت، تنزل۔ باذِل: خرچ کرنے والا۔ مبتذِل: بازاری، سوقیانہ، عام۔ مُتبذِّل: دیرینہ، پرانا، فرسودہ، پامال، بے وقعت، بالکل عیاں، پیش پا افتادہ، معمولی، بازاری، سوقیانہ، روزمرہ۔

بذم: بَذُمَ ـُ بَذَامَةً: دور اندیش ہونا اور اپنی رائے پر پختگی کے ساتھ جم جانا صفت: بذیم۔ البُذم: دور اندیشی، مآل اندیشی، قوت، طاقت، رائے کی عمدگی، مروت۔ المِبذَم: مضبوط اونٹنی۔

بذا: بَذَا ـُ بَذوًا و أبذَی ابذاءً علیه: سے بدزبانی کرنا، فحش کلامی کرنا۔ بَذُوَ ـُ بَذاءً و بَذاءَةً: فحش گو ہونا صفت: بَذِیّ جمع اَبذِیاء مونث بَذِیَّة۔ البَذاء: بیہودہ و ناشائستہ کلام۔

برّ: ۱۔ بَرَّ ـِ بِرًّا و بَرَرةً و بُرُورًا خالقَهُ: اپنے خالق کی اطاعت کرنا۔ بَرَّ ـَ بِرًّا و مَبَرَّةً والدَهُ: اپنے والد کی اطاعت کرنا، سے حسن سلوک کرنا، خوش معاملگی سے پیش آنا صفت: بَرّ جمع اَبرار و بارّ جمع بَرَرة۔ تبرّرَ: نیک وصالح ہونا۔ ـــ ہ: کی اطاعت کرنا۔ البَرّ جمع بُرُور: نیک اطوار، بھلائی کرنے والا، بڑا نیک، سچا۔ البِرّ: اطاعت۔

۲۔ بَرَّ ـَ بَرًّا و بِرًّا و بَرَارةً و بُرُورًا فی قوله: سچ بولنا۔ ـــ ت الیمینُ: قسم کا سچا ہونا۔ اَبَرَّ الیمینَ: قسم پوری کر دینا۔ البَرّ: سچا، اللہ تعالی کے اسمائے حسنہ میں سے ایک۔ البِرّ: سچائی، صلاحیت۔ البَرّ و البارّ جمع اَبرار و بَرَرة: نیک اطوار، بھلائی کرنے والا، بہت سچ بولنے والا، سچا۔ اَبَرّ: اسم تفضیل (زیادہ نیک، زیادہ فیاض، زیادہ دور، صحرا میں رہنے والا)۔ اصلحُ العرب اَبَرُّهم: عرب کا فصیح وہی بدوی ہے جو شہر سے دور رہتا ہے۔ المَبرُور من الافعال: وہ فعل جو شبہ، جھوٹ اور خیانت سے پاک ہو۔

۳۔ بَرَّ ـَ اللهُ الصلاةَ: اللہ تعالی کا نماز کو قبول کرنا۔ ـــ ت الصلاةُ: نماز کا قبول ہونا۔ اَبَرَّ اللهُ حُجّتَهُ: اللہ تعالی کا کسی کی حجت قبول کرنا۔

۴۔ بَرَّ ـِ بِرًّا: اچھے کام کرنا۔ بارّہ: سے حسن سلوک سے پیش آنا، مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ بَرَّرَہُ: کو پاک کرنا۔ ـــ ہ: کو نیک اطوار ٹھہرانا۔ تبرّرَ: اپنی نیکی کے اظہار کا ارادہ کرنا۔ تَبارّ القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا۔ البِرّ: عطیہ، مہربانی، شفقت۔ البُرّی: اچھی بات۔ المَبَرَّة جمع مَبَارّ: عطیہ، نیکی کا موجب۔

۵۔ اَبَرَّ علیه: پر غالب ہونا، فائق ہونا۔

۶۔ اَبَرَّ: خشکی کا سفر کرنا۔ اِبترَّ: ساتھیوں سے کنارہ کشی کرنا اور یکسو ہونا۔ البَرّ جمع بُرُور: خشکی (خشک زمین)۔ کہا جاتا ہے: جَلَستُ بَرًّا: میں گھر کے باہر بیٹھا۔ خَرَجَ بَرًّا: وہ صحراء اور بیابان کی طرف نکلا۔ اریدُ جَوًّا و یریدُ بَرًّا: میں پوشیدگی چاہتا ہوں اور وہ علانیہ کا خواہاں ہے (یہ کوئی قدیم محاورہ نہیں)۔ البَرّی: زمینی، خشکی کا (بحری کی ضد)۔ (ح): جنگلی وحشی جانور (اہلی پالتو کے مقابلہ میں)۔ (ن): جنگلی نباتات (بستانی کے مقابل)۔ البَرِّیَّة جمع بَرَارِی: صحراء۔ البَرِّیت جمع بَرَارِیت: جنگل، بیابان۔ البَرّانی (خلاف جَوّانی): ظاہر، بیرونی۔ من اَصلَحَ جَوّانیّتَهُ اصلحَ اللهُ بَرّانیّتَهُ: جو اپنے باطن کو ٹھیک کرے گا اللہ اس کے ظاہر کو درست کر دے گا۔

البرمائی: دیکھو "برم"

۷۔ البُرّ جمع اَبرار و بُرَرة واحد بُرّة: گندم، گیہوں۔

○ بَرَّ ـِ بِرًّا: بزرگوں کا ادب کرنے والا ہونا، فرض شناس ہونا، وفادار ہونا، جانثار ہونا، فدا ہونا، قربان ہونا۔ ـــ ہ/ب: پر مہربان ہونا، فیاض ہونا، کرم فرما ہونا، سے اچھا سلوک کرنا۔ ـــ ہ: کا (خصوصاً اللہ تعالی کا) حکم ماننا۔ ـــ ہ/ب: والدین سے احترام سے پیش آنا، والدین کا ادب کرنا۔ ـــ: دیانت دار ہونا، راست باز ہونا، راست گو ہونا، حق گو ہونا، صادق ہونا، (حلفیہ بیان کا) صحیح ہونا، سچا ہونا، ضابطہ کے مطابق اور قانوناً مکمل ہونا۔ ـــ ب: (وعدہ، قسم) پورا کرنا۔ بَرَّرَ: وجہ جواز ہونا، کا جواز پیش کرنا، توجیہہ کرنا، کا جواز ہونا، کی جائز وجہ ہونا، کی برأت کرنا، کو بیگناہ ثابت کرنا۔ ـــ ہ/ہ: کو بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا، کی گلو خلاصی کرنا، کو چھٹکارا دلانا، کی رسمی کارروائی پوری کرنا۔ بَرَّرَ وجهَهُ ب: کے ذریعے جواز پیش کرنا، کی سے توجیہ کرنا۔ اَبَرَّ ہ: (وعدہ، قسم وغیرہ) پوری کرنا۔ تبرّر: جائز وجہ ہونا، حق بجانب ہونا۔ بِرّ: تعظیم، پارسائی، تقوی، زہد و اتقاء، نیکی، دیانتداری، خدا پرستی، صدق، اخلاص، مہربانی، خیراتی تحفہ۔ بَرّ و بارّ جمع اَبرار و بَرَرة: بزرگوں کا ادب کرنے والا، نیک، خدا پرست، راست باز، متدین، متقی صالح، نیکوکار، مہربان، شفیق۔ ـــ ب: کے بارے میں فرض شناس، کے لئے وقف شدہ، نذر

شدہ۔ مَبَرَّۃ جمع مَبَرَّات و مَبَارّ: نیکی، سخاوت، عطیہ، خیرات، خیراتی تنظیم یا ادارہ، گھر یا ہسپتال جو نجی مالی وسائل سے قائم کیا گیا ہو۔ تبریر: جواز، توجیہ، بیگناہی کا ثبوت۔ برأت بَارّ: بزرگوں کا احترام کرنے والا، ایماندار، جانثار، وفا شعار، وقف وفا۔ مَبْـــرُور: اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقبول، مقدس (متوفی)۔ مُبَرِّر جمع مُبَرِّرات: جواز، توجیہ، عذر، معذرت، اعتزار)۔ لا مُبَرِّرَ لہ: جس کا کوئی جواز نہ ہو، جس کا کوئی جواز پیش نہ کیا جا سکے۔

○ بَـــرّ: زمین (خشکی سمندر کے مقابلہ میں) خشکی کا بڑا ٹکڑا، کھلا علاقہ۔ بَرًّا: باہر، دُور، بیرونی۔ بَرًّا و بحرًا: بذریعہ خشکی و سمندر، خشکی اور سمندر کے راستہ سے۔ بَـــرِّی: زمینی، جنگلی (پودے اور جانور)۔ سیارۃ برّیۃ مائیۃ: جل بھومی، گاڑی جو خشکی اور تری میں چل سکے۔ بَـرِّیَۃ جمع بَـرَارِی: کھلا علاقہ، صحراء، بیابان، لق و دق صحراء۔ بَرَّانِی: بیرونی، غیر ملکی، پردیسی۔ بُرّ: گیہوں، گندم۔

برا: بَرَأَ ـ بَرْءًا و بُرُوءًا ہ: کو عدم سے پیدا کرنا۔ البارِی: خالق تعالیٰ و تسائی۔ البَرِیَّۃ جمع بَرَایا: مخلوق۔

۲۔ بَرِئَ ـ بَرَأَ ـ و بَرُؤَ ـ بَرْءًا و بُرْءًا و بُرُوءًا من المرضَ: بیماری سے صحت یاب ہونا۔ أبْرَأَ المریضَ: بیمار کو صحت یاب کرنا۔ البَارِی: صحت یاب شخص جس میں نقاہت ابھی باقی ہو۔

۳۔ بَرِئَ ـ بُرُوءًا و بَرَاءَۃً: عیب و قرض سے نجات و خلاصی پانا۔ بَرَّأَہُ تَبْرِئَۃً: کو بری کرنا۔ ـــ من التہمۃ: کو تہمت سے بری کرنا۔ أَبْـــرَأَہُ مـن الدَّین: کو قرض سے بری کرنا۔ تَبَرَّأَ من الذَّنْبِ: گناہ سے نجات پانا۔ اِسْتَبْـــرَأَ: قرض یا گناہ سے برأت چاہنا۔ البَرِی و البَرِیّ جمع بَـرِیئُون و بُرَآء و بِراء و أبْراء و أبْرِیاء مونث بَرِیئۃ و بَرِیَّۃ جمع بَرِیئات و بَرِیَّات و بَرَایَا: خالص، خالی وہ جو گناہ اور تہمت سے پاک و بری ہو۔ البَـــرَاءُ: بری۔ أنا براءٌ منہ: میں اس سے بری ہوں۔ (یہ مصدر ہے اس کی تثنیہ، جمع اور مونث نہیں آتی) البراءَۃ جمع بَرَاءَات: بَرِی کا مصدر۔ قرض سے بری کرنے کی تحریر، اجازت۔ ـــ السلطانیۃ: سلطانی فرمان جو دولت عثمانیہ میں دوسرے ممالک کے سفراء وغیرہ کی تعیناتی کی تصدیق کے طور پر دیا جاتا تھا۔

۴۔ بَارَأَ شـریکَہُ: شریک سے جدائی اختیار کر لینا۔ تَبَارَأ الزَّوجانِ: خاوند بیوی کا ایک دوسرے سے جدا ہو جانا۔

۵۔ أَبْـرَأَ الـرَّجُلُ: مہینہ کی پہلی رات میں داخل ہونا۔ البَرَاء: مہینہ کی پہلی رات۔ اِبنُ البَرَاء: مہینہ کی آخری رات۔

۶۔ البَـرَاءَۃ جمع بَـرَءَات: لائسنس، ڈپلوما، پیٹنٹ (patent)۔ ـــ البابویۃ: پاپائی فرمان۔ جسے لاطینی میں بولّہ (bull) کہتے ہیں۔ البُراءَۃ جمع بُرَاء: بچان۔

○ بَرِیَء ـ بَراءۃً من الی: سے (خصوصاً جرم، الزام وغیرہ سے) کے نزدیک، آزاد ہونا یا ہو جانا، مبرا ہونا یا ہو جانا۔ ـ من: (بیماری) سے شفایاب ہونا۔ بَرَّأَہ مـن: کو (شک، الزام، جرم وغیرہ) سے بری الذمہ قرار دینا، بری کرنا، آزاد کرنا، مبرا کرنا۔ بَرَّأَ ساحۃَ الـرجُلِ: اس نے آدمی کو بری کر دیا، بری الذمہ قرار دے دیا۔ أبْرَأَہ: کو بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا، کو صحت یاب کرنا۔ أبْرَأَ ذمتَہُ: کسی کو یا اپنے آپ کو جرم سے مبرا، بری قرار دینا۔ تَبَـرَّأَ من: (شک الزام سے) مبرا ہونا، ذمہ داری سے آزاد ہونا، مبرا ہونا، سے خلاصی پانی، اپنے آپ کو سے بے گناہ قرار دینا، کی ذمہ داری سے انکار کرنا، بری ہونا، بری الذمہ ہونا۔ اِسْتَبْرَأَہ: کی صحت بحال کرنا۔ ـــ من: خود کو سے مبرا کرنا، سے خلاصی پانا۔ بُـرءٌ و بُرُوء: افاقہ، صحت یابی۔ بَرِیٌ جمع أبْرِیاء و بُراء و بِرَاء من: سے مبرا، مستثنٰی، خالی، محروم؛ ـــ: بے گناہ، معصوم، بے قصور، بھولا بھالا، بے ریا، بے ضرر، صحتمند، صحیح سالم۔ بَرَاءٌ من: سے مبرا، مستثنٰی۔ ذِمَّتُہُ براءٌ مِن: وہ سے معصوم ہے۔ براءَت: مبرا ہونا، انکار، تردید، پسپائی، واپس لینا، معصومیت، بے گناہی، بے ریائی، بھولپن، سادہ لوحی، (جمع بَـــراءَات): لائسنس، ڈپلوما، پیٹنٹ (patent)۔ بَـــراءَۃ اختراع: کسی ایجاد پر حکومت کی طرف سے حفاظت کی سند۔ بَراءۃ التنفیذ: حکومت کا دوسرے ملک کے قونصل کو تسلیم کرنا۔ براءۃ الثقۃ: کاغذات نمائندگی، سرکاری تصدیق یا مراسلہ، تعارف، تصدیق نامہ (credentials)۔ علی براءۃ: بے ضرر، معصوم، بے گناہ، بے قصور۔ تَبْرِئۃ: مبرا کرنا، استثناء، بریت، خلاصی۔ مُبَارأۃ: خاوند اور بیوی کی باہم رضامندی سے دی جانے والی طلاق۔ إبْـراء: بریت، نجات، کسی قرضدار کو قرض کی ادائیگی یا دیگر ذمہ داریوں سے آزادی، قرض کی معافی۔

○ بـراجـوی: پیراگوئے (Paraguay) ایک شہر کا نام۔

○ البراذیل: برازیل Brazil۔

○ براسیری: جو کی شراب نوشی کا دیوان خانہ۔

○ براغ: پراغ Pague۔

○ برافان: تہہ ہو سکنے والا پردہ۔

براھما: برہما۔

برال: بَرْأَلَ و تَبَرْأَلَ و ابْرَأَلَّ الطائر: پرندہ کا لڑائی کے لئے گردن کے بال کھڑے کرنا۔ البُـرَائِل و البُـرَائِلی: پرندہ کی گردن کے گرد بال۔ بـرائِلُ الارضَ: سبز گھاس۔

برب: ۱۔ البُرْبُخ جمع بَرَابِخ: بدرو، مٹی کی بنی ہوئی پختہ نالی۔

۲۔ بَـرْبَـرَ: بے فائدہ بکواس کرنا، بک بک کرنا، غصہ میں چلانا صفت: بَرْبار۔ ـ المَعزُ: بکرے کا میں میں کرنا۔ تَبَرْبَرَ: وحشی ہونا۔ البَرْبَرِی جمع بَرَابِر و بَرَابِرَۃ: بربر قوم کا فرد۔ البَرْبَر: مغربی افریقہ کے لوگ۔ مصر اور دیگر ممالک میں زنگیوں اور حبشیوں پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ (مجازاً): وحشی، ظالم، جابر۔

۳۔ بَرْبریس (ن): ایک خاردار پودے کا نام۔

۴۔ بَرْبَصَ الأرضَ: زمین کو پانی دینا۔

۵۔ البَرْبَط (مو): بربط باجہ، سارنگی (فارسی لفظ)۔

○ بَرْبَرَ: بڑبڑانا، بک بک کرنا۔

○ بِـرْبَۃ و بِرْبَی جمع بَـرَابِی: قدیم مصری مندر۔ مندر کے کھنڈرات جن کا تعلق قدیم مصر سے ہے، بھول بھلیاں۔

○ بَـرْبَرِیۃ: وحشیانہ پن، ظلم، سفاکی، وحشی پن، جنگلی پن، وحشیانہ انداز، ظلم و ستم، ستم شعاری، جفا کاری۔ مُتَبَرْبِر: غیر مہذب، ظالم، وحشی۔

○ بربیش: حقہ کی نلکی، حقنہ کی نلکی۔

○ بَـرْبَـطَ: (پانی میں) چھینٹے اڑانا، چھپ چھپ کرنا، چھپ چھپ کر کے چلنا، ننگے پاؤں چلنا، ہاتھ پاؤں مارنا، چھینٹیں اڑانا۔

○ بَرْبُونی و بربون: سرخ سمندری مچھلی۔

برت: ۱۔ بَرِتَ ـ بَرَتًا: حیران ہونا۔ بَرَتَ ـ بَرْتًا الشیءَ: کو کاٹنا۔ البُرْت و البِرت و البِرِّیت جمع أبْرات: ماہر راہبر۔ البُـرت و المِبـرت: چینی، کھانڈ۔

۲۔ البِرِّیت جمع بَرَارِیت: صحراء۔

۳۔ البُرتقال و البرتقان واحد برتقالۃ یا برتقانۃ: نارنگی، نارنگی کا درخت، سنترہ، مالٹا، سنترہ یا مالٹا کا

درخت۔

○ بُرتُقالي و بُرتُقال: نارنگی، مالٹا یا سنترہ رنگ کا۔

برث: البُرثُن جمع بَراثِن من السباع و الطیر: پنجہ، چنگل۔

برج: ۱۔ بَرِجَ - بَرَجًا: کھانے پینے میں فراخ حال ہونا، رزق میں کشائش والا ہونا۔

۲۔ بَرِجَتْ - عینُهُ: سیاہ اور فراخ آنکھوں والا ہونا، حسین آنکھوں والا ہونا صفت: اَبْرج۔ برجاء جمع بُرج: حسین آنکھ۔ البَرَج جمع اَبْرَاج: خوبصورت۔

۳۔ بَرَجَ - الشيءُ: ظاہر ہونا، بلند ہونا۔ بَرَّجَ و اَبْرَجَ: برج بنانا، مینار بنانا۔ تَبَرَّجَتِ المرأةُ: عورت کا اجنبیوں کو اپنی آرائش اور خوبصورتی دکھانا۔ البَرَج جمع اَبْرَاج: ظاہر، معلوم۔ البُرج جمع بُروج و اَبْراج و اَبْرِجة: قلعہ، محل، مینار، گنبد، کونہ، قلعہ کا کونہ۔ (فلك) بارہ آسمانی برجوں میں سے ایک برج جو یہ ہیں۔ حمل یا کبش، ثور، جوزاء، یا توأمان، سرطان، اسد یا لیث، سنبلہ یا عذراء، میزان، عقرب، قوس یا رامی، جدی یا تیس، دلو یا ساقی یا ساکب الماء، حوت یا سمکۃ۔ فلك البروج: منطقۃ البروج۔

۴۔ البارِج: ماہر ملاح۔ البارجۃ جمع بَوارِج: بڑا جنگی بحری جہاز۔ سفينةٌ بارجةٌ: کھلی کشتی۔ کہتے ہیں: ما فلانٌ الا بارجةٌ قد جمع فيه كل الشرّ: فلاں شخص شریر ہے۔ تباريج النبات: پودوں کے پھول۔ الإِبْرِيج: دودھ بلونے کا آلہ۔

۵۔ البرجاس (ا ع): جانوروں کی پیٹھوں پر رکھی جانے والی گدی۔

۶۔ البُرجُد: دھاری دار موٹی چادر۔

۷۔ البُرجُمة جمع بَراجم (ع ا): انگلیوں کے جوڑ یا ہاتھ اور پاؤں کی چھوٹی ہڈیاں۔ البَراجم: قبیلہ تمیم کی ایک شاخ، ایک ضرب المثل ہے: ان الشقي وافدُ البراجم: یہ مثل اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو خود کو لالچ میں آکر ہلاکت کی نذر کردے۔ اس ضرب المثل کا پس منظر یہ ہے کہ سوید بن ربیعہ نے عمرو بن ہند کے بھائی کو قتل کر دیا، تو عمرو نے قسم کھائی کہ وہ بنی تمیم کے سو آدمیوں کو مار کر نذر آتش کرے گا چنانچہ بنو دارم (بنو تمیم کی ایک شاخ) کے ننانوے آدمیوں کو مار کر اس نے آگ میں ڈال دیا۔ قسمت کا مارا براجم کا ایک آدمی گوشت کی بو سونگھ کر اور یہ خیال کر کے کہ ولیمہ کی تقریب ہے وہاں جا پہنچا، عمرو نے اس سے پوچھا تم کس قبیلہ کے ہو تو اس نے کہا: میں براجم سے ہوں۔ یہ سن کر عمر نے اسے بھی قتل کر دیا اور یوں سو کی گنتی پوری کرلی۔

۸۔ البرجيس (فلك): مشتری ستارہ۔ ابو برجيس: ایک خار دار درخت۔

○ تَبَرَّجَ: عورت کا اپنے حسن کی نمائش کرنا، بننا سنورنا، بناؤ سنگار کرنا۔ بُرجُ الحَمَام: کابک۔ بُرجُ المِياه: پن مینار water-tower۔

○ لعبُ البِرجاس: فوجی شہسواروں کی نیزہ بازی، کھیلوں کا عام مقابلہ۔

○ البِرجيس: مشتری (ستارہ)

○ بُرجُل جمع بَراجِل: کمپاس، پرکار۔

○ بُرجُمة جمع بَراجم: انگلیوں (یا پوروں) کے جوڑ کی ہڈی، انگلیوں کا جوڑ۔

برح: ۱۔ بَرِحَ - بَرَاحًا و بَرَحًا المكانَ و منه: کسی جگہ سے ہٹنا، کسی جگہ کو چھوڑنا، زائل ہونا۔ کہا جاتا ہے: ما بَرِح و لابَرِحتَ غَنِيًّا: وہ اور تم غنی رہے۔ بَرِح الخفاءُ: اخفا ظاہر ہو گیا۔ أبرَحَهُ: کو اس کی جگہ سے ہٹانا۔ بارَحَ المكانَ: جگہ سے ہٹنا اور چھوڑ جانا۔ بَرَاح: سورج کا اسم علم یعنی سورج (قطام کی طرح) البارِح و البارِحة: شب گذشتہ۔ البارحة الاولى: گذشتہ رات سے پہلی رات۔ کہا جاتا ہے: هذه فعلةٌ بارحةٌ: یہ فعل غلط اور غیر ارادی ہے۔

۲۔ بَرِحَ - بَرَحًا الرجلُ: غصہ ہونا، ناراض ہونا۔

۳۔ بَرَحَ - بُرُوحًا الصيدُ: شکار کا دائیں طرف سے گذر جانا۔ صفت: بارِحٌ و بَرُوحٌ و بَرِيحٌ۔

۴۔ بَرَّحَ بــه الامرُ: کو کام کا تھکا دینا، سخت دکھ اور تکلیف دینا۔ ـــ اللهُ عنك: اللہ تیری تکلیف کو دور کرے۔ أبْرَحُ: (تفضیل کے لئے آتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: هذا أبْرَحُ عَلَيَّ من ذلك: یہ مجھ پر اس سے زیادہ مشکل اور سخت ہے۔ قتلوهم أبْرَحَ قتلٍ: انہوں نے اُسے زیادہ برا قتل کیا۔ البَرْح جمع أبْرَاح و التَبْرِيح و البُرَحاء: سختی، تکلیف، برائی۔ التَبارِيح: مصائب زندگی۔ کہا جاتا ہے: تباريح الشوق: تمتماہٹ، (آرزو کی)۔

۵۔ أبْرَحَ هُ: کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، پر تعجب کرنا۔ ما أبْرَحَ هذا الامرَ: یہ معاملہ کتنا حیرت انگیز ہے! البَرْح: دہشت انگیز معاملہ۔ ہم کہتے ہیں: أمرٌ بَرْحٌ۔

۶۔ البَرَاح: ظہور، بیان۔ کہا جاتا ہے: لا بَرَاحَ: کوئی شک نہیں۔ جاءَ نا الامرُ بَراحًا: معاملہ ہم تک واضح طور پر پہنچا۔ جاءَ بالكفر بَرَاحًا: اس نے کفر کا اظہار صاف اور کھلے طریقہ سے کیا۔ البَراح: کشادہ زمین جس میں نہ روئیدگی ہو اور نہ کوئی عمارت۔ بَرحَى: تیر کے خطا کرنے پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بمعنی ارے، لیکن تیر نشانہ پر لگے تو مَرحَى کہا جاتا ہے۔ بمعنی واہ، کیا خوب۔ البارِح جمع بَوَارِح: گرم ہوا۔ ابنُ بَرِيح: کوا۔

○ بَرِحَ - بَرَاحًا ه/من الى: کسی جگہ کو چھوڑ کر کسی جگہ جانا۔ ـــ ه الى: کی طرف جاتے ہوئے کسی جگہ سے روانہ ہونا۔ (نفی کے ساتھ) جاری رہنا، ہونا جیسے: ما بَرِح في: وہ ابھی تک اندر ہے۔ ما برح غنيا: وہ ابھی تک دولت مند ہے۔ بَرِح الخفاء: معاملہ باہر آگیا، اور عام طور پر علم میں آگیا۔ غَدا و بَرِح: آنا اور جانا۔ بَرَّحَ ب: کو گھیر لینا، پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑنا، کو پریشان کرنا، دق کرنا، ستانا، زچ کرنا، کو جان بوجھ کر چھیڑنا، تکلیف دینا، زحمت دینا۔ بارَحَ ه إلى: کسی جگہ کو کسی جگہ جانے کے لئے چھوڑنا، کسی جگہ سے کی طرف جاتے ہوئے روانہ ہونا۔ بَرَاح: روانگی، خاتمہ، انقطاع، اختتام، رکنا، وسیع خالی زمین، وسیع علاقہ، پھیلاؤ، کشادگی۔ بَرَاحًا: کھلم کھلا، واضح طور پر، صریحاً۔ تباريح: (آرزو، عشق وغیرہ) کے کرب، کی اذیتیں۔ مُبارَحة: روانگی۔ بارِح: بدشگون، منحوس، نامبارک۔ البارِح: گذشتہ کل۔ البارحة: گذشتہ کل۔ الليلة البارحة: گذشتہ شب۔ اوّلَ البارحة: گذشتہ پرسوں، دو دن پہلے۔ مُبَرِّح: تشدد آمیز، شدید، سخت، سخت شدید (درد وغیرہ)، ذہنی کوفت کا موجب۔ مُبَرَّحٌ بــه: ایذا دیا گیا، دکھ پہنچایا گیا، تکلیف میں ڈالا گیا، متاثر زدہ، سخت اذیت دیا گیا، سخت کوفت پہنچایا گیا۔

برد: ۱۔ بَرَدَ - بَرْدًا و بَرُدَ - بُرُودَةً: ٹھنڈا ہونا صفت: بَرُود و بارِد و بَرُود و بُراد۔ بَرَدَ - بَرْدًا الخبزَ: روٹی پر پانی ڈالنا ـــ العينَ: آنکھ میں ٹھنڈا سرمہ لگانا۔ بَرَدَ الليلُ و بَرَدَ علينا: ہم کو رات کی سردی لگی۔ ـــ و بَرَّدَهُ: کو ٹھنڈا کرنا۔ ـــ الوجعَ: درد کو کم کرنا اور سکون دینا۔ ـــ فلانٌ: سست پڑ جانا۔ کہا جاتا ہے: جَدَّ في الامر ثم بَرَدَ: اس نے معاملہ میں سرگرمی دکھائی پھر سرد پڑ گیا۔ بُرِدَتِ الارضُ: زمین پر اولے گرنا۔ ـــ القومُ:

لوگوں کو سردی لگنا، یا ان پر اولے پڑنا۔ اُبْرِدَ: موسم سرما یا اولوں میں داخل ہونا۔ — الشیءَ: کو ٹھنڈا کرنا۔ تَبَرَّدَ: ٹھنڈک چاہنا۔ کہا جاتا ہے: نزل فی الماء یتبرد: وہ پانی میں اتر کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے لگا۔ لاتُبَرِّدْ عن فلانٍ: اگر وہ تم پر ظلم کرے تو اُس کو گالی نہ دینا، مبادا اس کا گناہ کم ہو جائے۔ تَبَارَدَ: سردی ظاہر کرنا۔ اِبْتَرَدَ: ٹھنڈے پانی میں نہانا۔ اِستَبْرَدَهُ: کو ٹھنڈا پانا۔ البَرْد: سردی۔ البَرَد: اولے۔ البَرَدَة: ایک اولہ (بَرَد کا واحد)۔ بدہضمی۔ البَرُود: آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانے والا سرمہ۔ کہا جاتا ہے: ثوبٌ بَرُودٌ: ابھری درز والا کپڑا، روئیں دار کپڑا۔ البُرَدَاء: سردی کے ساتھ بخار۔ البَرَّاد: ریفری جریٹر، فرج، سردخانہ۔ البَرَّادَة: واٹر کولر water cooler۔ المَبْرَدَة: ٹھنڈ پیدا کرنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے: هذا مَبْرَدَةٌ للبدن: یہ جسم میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ البارد (فا): ٹھنڈا۔ عیش باردٌ: خوشگوار زندگی۔ غنیمة باردة: لڑائی اور محنت مشقت کے بغیر ملنے والا مالِ غنیمت۔ البَرْدان و الأَبْرَدان: صبح و شام۔

۲۔ بَرَدَ ـ بَرْدًا الحقُّ علیه اولَهُ: کے خلاف یا حق میں حق ثابت ہونا۔ — وبَرَّدَ الحقَّ: حق کو ثابت اور واجب کرنا۔

۳۔ بَرَدَ فلانٌ: سونا۔ البَرْد: نیند۔

۴۔ بَرَدَ ـ بَرْدًا الحدیدَ: لوہے کو ریتی سے رگڑنا۔ اِستَبْرَدَ علیه لسانَهُ: پر زبان درازی کرنا۔ البُرَادَة: لوہے وغیرہ کا ریتا ہوا برادہ۔ المِبْرَد: ریتی۔ البارِد: قاطع، کاٹ دار۔ المرهفات البوارد: کاٹ دار تلواریں، کاٹنے والی تلواریں۔

۵۔ اَبْرَدَهُ المرضُ: کو بیماری کا کمزور کرنا۔ البارِد: کمزور۔ حجة بارِدَة: کمزور اور پھسپھسی دلیل۔

۶۔ اَبْرَدَ الیه البریدَ: کی طرف قاصد یا ایلچی بھیجنا۔ البَرِید جمع بُرُد: قاصد، ایلچی، تقریباً بارہ میل کی مسافت، ڈاک، ڈاکخانہ، بھیجی ہوئی چیزوں کو وصول کرنے اور دینے والا دفتر، بھیجے جانے والے خطوط اور پارسل۔

۷۔ البُرْد جمع بُرُود و اَبْرَاد و اَبْرُد: دھاری دار کپڑا (کہا جاتا ہے: وقع بینهم قَدُّ بُرُود یمانیة: وہ آپس میں اتنے جھگڑے کہ ان کے قیمتی لباس تک پھٹ گئے)۔ کالا کمبل واحد بُرْدَة جمع بُرَد۔ الاَبْرَد جمع بارِد مونث الاَبْرَدَة (ح): چیتا۔ البَرْدِی (ن): نرکل کی طرح کا ایک پودا جس کے چھلکے کو قدیم مصری لکھنے کے کام میں لاتے تھے۔ البَرْدِیّ: کھجوروں کی ایک عمدہ قسم۔

۸۔ البَرْدَعَة و البَرْذَعة: جانور کی پیٹھ پر ڈالا جانے والا کپڑا، عرق گیر۔

۹۔ برد بوط: پادری جس کے ذمہ رعایا کے پاس جانے کا فرض ہو۔

○ بَرَدَ ـ بَرْدًا: ٹھنڈا ہونا یا ہو جانا، کم ہونا، ٹھنڈ محسوس کرنا۔ — ہ: کو ٹھنڈا کرنا، (تکلیف) کو تسکین پہنچانا، ہلکا کرنا، کم کرنا، گھٹانا۔ بَرُدَ ـ بردا: ٹھنڈا ہونا یا ہو جانا۔ بَرَّدَ ہ: کو ٹھنڈا کرنا، (اشیاء خوردنی) کو برودت کے ذریعے محفوظ کرنا۔ (تکلیف) کو تسکین پہنچانا، سکون دینا، کم کرنا، ہلکا کرنا، گھٹانا۔ تَبَرَّدَ: تازہ دم ہونا، تسکین حاصل کرنا، سکون پانا۔ اِبْتَرَدَ: ٹھنڈا ہو جانا۔ بَرْد: ٹھنڈ، خنکی، سردمہری، تخفیف، کمی، تسکین، زکام، نزلہ۔ بَرَد: ژالہ، اولہ، اولوں کی بوچھاڑ۔ بَرَدَة: اولہ۔ بَرُود: کاجل، انجن سرمہ۔ بُرُود: ٹھنڈا، ٹھنڈک، سردمہری، جذباتی سردمہری، بے حسی، بے اعتنائی، مردہ دلی۔ بُرُودَة: ٹھنڈ، سردی، جذباتی سردمہری، بے حسی، بے اعتنائی، مردہ دلی۔ بُرُودَةُ الدم: بے دردی، بے رحمی، سفاکی۔ بَرْدِیة: موسمی بخار، ملیریا، تپ لرزہ، جاڑے کا بخار، باری کا بخار، نوبتی بخار۔ بُرَدَاء: موسمی بخار، تپ لرزہ، جاڑے کا بخار۔ بَرَّادَة: سردخانہ کا کارخانہ، ریفری جریٹر، آئس بکس (ice box)۔ تبرید: ٹھنڈا کرنا، سردخانہ، برودت کے ذریعے اشیاء خوردنی کو محفوظ کرنا، تخفیف، تسکین۔ جهاز التبرید: ریفریجریٹر، cold storage plant۔ غرفة التبرید: کولڈ سٹوریج کا کمرہ۔ بارِد: ٹھنڈ، ہلکا ٹھنڈ، نیم سرد، ٹھنڈے دل و دماغ کا، برد، بے مہر، سردمہر، روکھا، آسان، کمزور، بے وقوف، احمقانہ، کند، کند ذہن، غبی، کودن، کاٹھ کا الو۔ الحرب الباردة: سرد جنگ۔ غنیمة باردة: آسان شکار۔ عیش باردٌ: مطمئن زندگی۔ حُجّة بارِدَة: کمزور استدلال۔ تبغ باردٌ: ہلکا یا نرم تمباکو۔ مُبَرِّد: ٹھنڈہ کرنے والا، تازہ دم کرنے والا۔ مُبَرِّدات: نقل چائے وغیرہ، کھانے پینے کی ہلکی چیزیں (refreshments)، مشروبات وغیرہ Beverages۔ مُبَرَّد: ٹھنڈا کیا ہوا۔

○ بَرَدَ ـ بردًا ہ: کو ریتی سے رگڑنا۔ بَرَّاد: (مشینوں کا) فٹر fitter۔ بِرَادَة: فٹر کا کام یا پیشہ۔ بُرَادَة: لوہے کا برادہ۔ مِبْرَد ج مَبَارِد: ریتی، خار دار ریتی، سوہن (file- rasp)۔

○ بُرْد جمع اَبراد: لباس۔ بُرْدَة: رسول کریم ﷺ کا بیرونی لباس۔ بُرْدَایَة: پردہ۔

○ اَبْرَدَ ہ: (خط وغیرہ) بذریعہ ڈاک بھیجنا۔ بَرِید: ڈاک، میل۔ البریدُ الجوّی: ہوائی ڈاک (air mail)۔ بَرِیدی: ڈاک کا، قاصد، ڈاکیہ، ہرکارہ، پیغام رساں۔

○ بارود: شورہ، قلمی شورہ، بارود (gunpowder)۔

○ بَرْدِی: پیپرس (قدیم مصر میں مستعمل) کاغذ کی ابتدائی شکل، بردی کاغذ۔ بَرْدِیَة جمع بَرْدِیَات: بردی کاغذ۔ علم البردیات: کاغذ سازی کا قدیم زمانہ کا فن یا علم۔

○ بَرْدَاق جمع برادِیق: جگ، صراحی، جھجھری، گھڑا۔

○ لعب البردج: پتوں کا کھیل۔ برج۔

○ بَرْدَخَ ہ: کو پالش کرنا، کو چمکانا، صیقل کرنا۔

○ بردعة: دیکھو برذعة۔

○ بردقان: دیکھو برتقان۔

○ بَرْدَقُوش: Marjoram۔ نازبو، مروا۔ مرزنجوش۔

○ بردوسة: لوہے کا حلقہ curb۔

○ بَرْذَعة جمع براذع: زین۔ بَرَاذِعی: زین ساز۔

برذ: بَرْذَنَ الرجلَ: کو مغلوب کرنا۔ — الفرسُ: گھوڑے کا ترکی گھوڑے کی چال چلنا۔ البِرْذَون مونث برذونة جمع بَرَاذِین (ح): ٹٹو، ترکی گھوڑا۔

○ بِرْذَون جمع براذین: ٹٹو، مریل گھوڑا۔

برز: ا۔ بَرَزَ ـ بُرُوزًا: میدان کی طرف نکلنا۔ بَرَّزَ: پاخانہ کرنا۔ تَبَرَّزَ: قضائے حاجت کے لئے میدان کی طرف جانا۔ البَرَاز: درختوں کے بغیر کھلا ہوا وسیع میدان، قضائے حاجت سے کنایہ۔ البِرَاز: آدمی کا پاخانہ۔ المَبْرَز و المُتَبَرَّز: قضائے حاجت کی جگہ۔

۲۔ بَرَزَ ـ و بَرِزَ ـ بَرْزًا: گمنامی و پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا صفت: بارز۔ بَرَّزَ الشیءَ: کو ظاہر کرنا۔ اَبْرَزَ ہ: کو نکالنا، ظاہر کرنا۔ — الکتابَ: کتاب شائع کرنا۔ اِستَبْرَزَهُ: کو نکالنا یا سامنے لانے کی درخواست کرنا۔

۳۔ بَرُزَ ـ بَرَازَةً: ساتھیوں سے فضیلت اور شجاعت میں فوقیت لیجانا۔ صفت بَرْزٌ مونث: بَرْزَة بَرَّزَ

السفرسُ: میدان میں دوسرے گھوڑوں پر سبقت لیجانا، آگے نکل جانا۔ — الرجلُ في العلم: علم میں اپنے ساتھیوں سے سبقت لیجانا۔

۴۔ اَبْرَزَ الرجلُ: ارادہ سفر کرنا۔

۵۔ بَارَزَ مُبَارَزَةً و بِرَازًا هُ: سے مقابلہ پر نکل کر لڑنا۔ البِراز (مص): لڑنے کے لئے نکلنا۔

۶۔ البَرزخ جمع بَرازخ: دو چیزوں کے درمیان کی روک اور آڑ۔ خاکنائے (خشکی کا وہ تنگ حصہ جو دو بڑے حصوں کو ملائے) دنیا اور آخرت کے درمیان موت سے بعث تک وقت۔ برازخُ الایمان: ایمان کی ابتداء و انتہاء کے درمیان کی حالت یا شک و یقین کی درمیانی حالت۔

۷۔ تبرزق القومُ: لوگوں کا بغیر گھوڑوں اور اونٹوں کے جمع ہونا۔ البرازیق واحد بِرْزِیق: لوگوں کے گروہ، شاہراہ کے اردگرد کے راستے (فارسی لفظ)۔ البَرازِق واحد بُرزُقة (ط): تلوں والا کیک۔

○ بَرَزَ ۔ بُرُوزًا: باہر آنا، ظاہر ہونا، نظر آنا، ظہور میں آنا، نکلنا، برآمد ہونا، باہر کو نکلا ہوا ہونا، ابھرا ہوا ہونا، باہر کو نکلنا، نمایاں ہونا، ممتاز ہونا (مجازاً بھی)۔ — علی: پر بازی لیجانا، سبقت لیجانا، سے بڑھ جانا۔ بَرَّزَہ: کو نکالنا، واضح کرنا، شائع کرنا، بے نقاب کرنا، دکھانا، کی زینت بڑھانا، کو نمایاں کرنا، پر زور دینا۔ — علی فی: پر میں بازی لیجانا، سبقت لیجانا، سے میں بڑھ جانا۔ — فی: پر آخر دم تک قائم رہنا، کا آخر تک حامی رہنا، کے ذریعے امتیاز حاصل کرنا۔ بَارَزَہ: سے لڑائی یا مقابلہ میں ٹکرانا، کسی کے ساتھ مقابلہ میں حصہ لینا۔ اَبْرَزَ ہ: کو نکالنا، کھولنا، کھول کر ڈال دینا، کو نمایاں کرنا۔ — ہ: (کتاب) شائع کرنا، شناختی کارڈ وغیرہ پیش کرنا، دکھانا۔ تَبَرَّزَ: رفع حاجت کرنا، قضائے حاجت کرنا، حوائج ضروریہ سے فارغ ہونا۔ تبارَزَ: مقابلہ کرنا۔ بُرُوز: نمایاں یا ممتاز ہونا، باہر کو نکلا ہوا ہونا، ابھرا ہوا حصہ، آگے کو نکلا ہوا حصہ۔ بِراز: پاخانہ پیشاب، بول و براز، مقابلہ، مبارزت، میچ (کھیلوں کا)، دو آدمیوں کی لڑائی۔ بُرَیزة: دس پیاسٹر کا سکہ۔ اَبْرَز: زیادہ واضح، زیادہ امتیازی، زیادہ نمایاں، زیادہ ممتاز، زیادہ مشہور، زیادہ معروف، زیادہ نامور۔ مُبَارَزة: مقابلہ، مبارزت میچ، دو شخصوں کی لڑائی، تیغ زنی، پٹہ بازی، بانہ بازی۔ اِبراز: باہر نکالنا، دکھانا، نمائش، تاکید، زور، پیداوار، پیشکش۔ بارِز: ابھرا ہوا، آگے کو نکلا ہوا، اچھلتا ہوا، نمایاں بیرونی، بنیادی، بیل بوٹے کاڑھا ہوا، گل کاری کیا ہوا، منبت کاری کیا ہوا، واضح، صریح، صاف، بین، جاذب توجہ، جاذب نظر، ممتاز۔ مُبَرِّز: (مقابلہ میں) جیتنے والا، فاتح۔ — علی: پر بازی لیجانے والا، سے برتر، عظیم تر، بہتر، بڑھا ہوا، بالا دست۔ مُبارِز: مقابلہ کرنے والا، لڑنے والا، جنگجو، تیغ زن، پٹے باز، بنّی ہلانے والا۔

○ بَرِیز جمع بریزات: (پلگ) ساکٹ، دیواری پلگ، نکلنے کا راستہ۔ بَرِیزَة جمع بَرائِز: (پلگ) ساکٹ، دیواری پلگ، نکلنے کا راستہ۔

○ بَرْزَان: ترم، بگل۔

○ بَرْزَخ جمع بَرازِخ: وقفہ، خلا، فرق، پردہ، حد، سرحد، روک، رکاوٹ، مانع، خاکنائے۔

○ برزق: پٹڑی، فٹ پاتھ۔

برس: ۱۔ بَرِسَ ۔ بَرَسًا: مقروض پر سختی کرنا۔ بَرَّسَ الأرضَ: زمین کو نرم کرنا۔ البُرْسُ و البِرس: روئی۔

۲۔ البِرْسِیان: ایک قسم کی کھجور۔

۳۔ البِرِسْکُوب: بالا بین (periscope)۔

۴۔ بَرْسَمَ ہُ: کو برسام کی بیماری میں مبتلا کرنا۔ بُرْسِمَ: برسام کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ صفت: مُبَرْسَم۔ البِرْسَام (طب): ذات الجنب کی بیماری (pleurisy)۔

○ بِرْسِیم: طریفل، خصوصاً مصری برسیم clover۔

برش: ۱۔ بَرِشَ ۔ بَرَشًا و اَبْرَشَ: جلد پر سفید داغوں والا ہونا، یا جلد سے مختلف رنگ کے داغوں والا ہونا صفت: اَبْرَش و مُبْرَش: کہا جاتا ہے: مکانٌ اَبرش: مختلف رنگوں کے کثیر التعداد پودوں والی زمین۔ سنة برشاء: وہ سال جس میں گھاس بہتات سے پیدا ہو۔ البَرِیش: سفید داغوں والا، جسم سے مختلف رنگ کے داغوں والا۔ البُرْشة والبَرَش: ناخنوں کی جڑوں کی سفیدی، گھوڑے کے بالوں پر چھوٹے چھوٹے دھبے جو اس کے رنگ سے مختلف ہوں۔

۲۔ بَرْشَمَ بَرْشَمَةً و بِرشامًا الرجلُ: خاموش رہ کر غم کا اظہار کرنا۔ — الیہ: کو گھور کر دیکھنا۔ البُراشِم: تیز نظر والا۔ البُرْشُم: برقع۔

۳۔ بَرْشَنَ الرسالةَ: خط کو گوند سے چپکانا۔ البِرشان واحد بِرشانة: گوند لبی (طب) دوائیں بھرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی کھوکھلی نکیاں، تازہ روٹی جو گرجوں کی تقریبات میں استعمال کی جاتی ہیں۔

○ ... جمع البراش: چٹائی۔ البُرَش: ... دار، چتلا۔

○ بِرْشِتْ: بیض بِرشت: نرم ابالے ہوئے انڈے۔

○ بَرْشِلُونه: برسلونا (شمال مشرقی سپین کی بندرگاہ)۔

○ بَرْشَمَ ہ: میں کیلیں یا رپٹیں لگانا۔ بَرْشَمَةً: کیلیں لگانا، رپٹیں لگانا (riveting)۔ بُرْشام و برشان (واحد برشامه و برشانة جمع بُرشامات و بُرشانات: ایک قسم کا پتلا کرکرا بسکٹ، عشائے ربانی کی روٹی، کاغذ یا نمدے کی ٹکیہ، گدی۔ بُرشامَة: رپٹ، میخ کیل۔ بُرشامجی: رپٹیں، میخیں یا کیلیں لگانے والا۔ بُرْشُمجیة: رپٹیں لگانا، کیل لگانا، میخیں لگانا۔

برص: ۱۔ بَرِصَ ۔ بَرَصًا: برص کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ اَبْرَصَ الرجلُ: برص کی بیماری والے بچے کا والد ہونا۔ — اللّٰهُ فلانًا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو برص والا بنانا۔ البَرَص: ایک جلدی بیماری جس کی وجہ سے جلد سفید ہو جاتی ہے اور ایک تکلیف دہ خارش لاحق ہو جاتی ہے۔ الأبْرَص مونث بَرْصَاء جمع بُرْص: برص کی بیماری میں مبتلا۔ مجازاً کہا جاتا ہے: حَيَّةٌ بَرْصَاء: کوڑیالا سانپ، سفید دھبوں والا سانپ۔

۲۔ تَبَرَّصَ الأرضَ: زمین کی گھاس پوری کی پوری چر جانا۔ ارضٌ بَرْصَاء: مختلف جگہوں سے چری ہوئی زمین۔

۳۔ الأَبْرَص: چاند۔ سام أبْرص (ح): چھپکلی، تثنیہ کی صورت میں کہا جاتا ہے: هذان سامًا ابرصَ اور جمع کی صورت میں کہا جاتا ہے: هؤلاء سوام ابرص و ابارص۔

○ بَرِص ۔ بَرَصًا: کوڑھی ہونا، جذامی ہونا، جذام کا مریض ہونا۔ بُرْص: چھپکلی۔ بَرَص: کوڑھ، جذام۔ اَبْرَص: کوڑھی، جذامی، جذام کا مریض۔ سام ابرص: چھپکلی۔

○ بُرْصة: بازار حصص stock exchange۔

برض: ۱۔ بَرَضَ ۔ بُرُوضًا النباتُ: نباتات کا پھوٹنا، پہلی روئیدگی ظاہر کرنا۔ بَرَّضَ و اَبْرَضَ المکانُ: جگہ کا بہت روئیدگی والا ہونا۔ تَبَرَّضَتِ الارضُ: زمین کا روئیدگی والا ہونا۔ البَارِض: زمین کی پہلے اگنے والی روئیدگی۔ البُرْضة: نباتات نہ اگانے والی زمین، بنجر زمین۔

۲۔ بَرَضَ ۔ بَرْضًا الماءُ من العین: چشمہ سے تھوڑا پانی پھوٹنا۔ بَرُوض: تھوڑے پانی والا چشمہ۔ تَبَرَّضَ الماءَ: پانی چوسنا۔ — الشيءَ: کو تھوڑا

تھوڑا لینا۔ ____ تھوڑی چیز پر زندگی گذارنا۔
البَرَض جمع بِرَاض و بُرُوض و أَبْرَاض: تھوڑا۔ کہا جاتا ہے: هذا بَرَضٌ مِن عِدٍّ: یہ بہت میں سے تھوڑا ہے۔ البُرَاض و البُرَاضة: تھوڑا۔ المَبْرُوض: کثرت بخشش سے تنگ دست۔
○ بَرَضَ ۔ بُرُوضًا (پودے کا) پھوٹنا، اگنا، کی کونپل پھوٹنا۔

برط: ۱۔ البِرْطَاش: پتھر کی چوکھٹ، اس کی فصیح عربی الأُسْكُفّة ہے۔
۲۔ بَرْطَلَهٗ بَرْطَلَةً: کو رشوت دینا۔ تَبَرْطَلَ: رشوت لینا۔ البُرْطُل: ٹوپی۔ البِرْطِيل: رشوت، چکی راہنے کا مستطیل پتھر یا لوہے کی لمبی سلاخ۔
۳۔ بَرْطَمَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ـــ الرجلُ: غصہ کی وجہ سے ہونٹ لٹکانا۔ ـــ و تَبَرْطَمَ: غصہ سے پھولنا۔ البِرطام و البُراطِم: موٹے ہونٹ والا۔
○ بَرطُوزُ البحرية: (بحری جہاز کے اگلے حصہ میں) ملاحوں کی آرام گاہ (تجارتی بحری جہاز پر) ملاحوں کے کوارٹر۔
○ بَرْطَعَ بَرْطَعَةً: سرپٹ دوڑنا۔
○ بَرْطَلَهٗ: کو رشوت دینا۔ تَبَرْطَلَ: رشوت لینا، ضمیر فروش ہونا۔ بِرْطِيل جمع بَرَاطِيل: رشوت۔
○ بَرْطَمَ: چلا چلا کر بولنا، (ہذیان میں) بکے جانا، بیہودہ گوئی کرنا۔ بُرطُوم: ہاتھی کی سونڈ۔
○ بَرْطَمَان جمع برطمانات: مٹی یا شیشے کا لمبا برتن (مربہ، تیل وغیرہ کے لئے)۔

برع: ۱۔ بَرَعَ ۔ و بَرِعَ ۔ و بَرُعَ ۔ بَرَاعةً و بُرُوعًا: علم، فضیلت یا حسن میں فوقیت رکھنا صفت: بَارِع ۔ بَرَعَ ۔ بُرُوعًا ہ: پر علمی فضیلت یا حسن میں فوقیت کی وجہ سے غالب آنا۔ ـــ الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ البَرِيع: حسن و عقل و دانش میں فوقیت رکھنے والا۔ البرقُ البريع: دور سے چمکنے والی بجلی۔ البَرَاعة: تفوق، برتری۔ ـــ عند البلغاء: فصاحت۔
۲۔ تَبَرَّعَ بالعطاء: اپنی بخشش کرنا جو نہ واجب ہو اور نہ اس سے کوئی عوض مطلوب ہو، عطیہ دینا۔ کہا جاتا ہے: فَعَلَهٗ تَبَرُّعًا و مُتَبَرِّعًا: اس نے اسے بطور نفل کیا۔
۳۔ بَرْعَمَ بَرْعَمةً و تَبَرْعَمَ الشجرُ: درخت کا غنچہ کھلانا یا نکلنا۔ البُرْعُم و البُرْعُمة جمع بَرَاعِم و البُرْعُوم و البُرْعُومة جمع بَرَاعِيم (ز): غنچہ نا شگفتہ (لغت کی کتابوں میں) درخت کے پھول اور کھلنے سے پہلے نباتات کے شگوفے اور پھول۔
○ بَرَعَ ۔ بَرَاعة و بروعاءً: سے فائق ہونا، بڑھ جانا، سبقت لیجانا، پر بازی لیجانا، شرف فضیلت یا فوقیت رکھنا۔ ـــ: ہنرمند ہونا، ماہر ہونا، مشتاق ہونا، آزمودہ کار ہونا، سلیقہ مند ہونا، استادانہ ہونا، ذی علم ہونا، قابل ہونا، لائق ہونا، واقف ہونا، ممتاز ہونا۔ تَبَرَّعَ بـ: کو دینا، بطور چندہ دینا، عطا کرنا، بطور عطیہ دینا، رفاہی کام میں بطور چندہ دینا، کو اپنی خوشی سے رضا کارانہ اپنے سر لینا یا کی ذمہ داری لینا یا کا بیڑا اٹھانا، کے لئے رضا کارانہ پیش کش کرنا، کو کرنے کے لئے تیار ہونا، آمادہ ہونا، کے ساتھ تیار ہونا۔ بَرَاعَة: مہارت، اہلیت، استعداد، لیاقت، قابلیت، صلاحیت۔
بُرُوعة: برتر مہارت، نمایاں مہارت۔ تَبَرُّع جمع تَبَرُّعات: تحفہ، عطیہ، چندہ۔
○ بارِع: ماہر، کاریگر، جوہر قابل، قابل، لائق کارکن، کارگزار، تابندہ یا نمایاں (فن کاری)
○ بَرْعَمَ: کونپلیں پھوٹنا، پھوٹنا، شاخیں نکلنا، اُگنا، سوئے نکلنا۔ بُرْعُم جمع بَرَاعِم و بُرْعُوم جمع بَرَاعِيم: کلی، غنچہ، شگوفہ، کونپل، پھول، نمو کی ابتداء۔

برغ: ۱۔ بَرْغَثَ المكانُ: جگہ کا بہت پسوؤں والی ہونا۔ بُرْغُوث جمع بَرَاغِيث (ح): پسو۔ بَرغوثُ البحر: جھینگا مچھلی۔
۲۔ البَرْغَش واحد بَرْغَشة (ح): مچھر۔
۳۔ البُرْغُل و البِرْغِل: چھل کر بھونی ہوئی گندم جو دوسری خوراک کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔
۴۔ البرغي و البُرْغِيّ جمع بَرَاغِي: پیچ والی میخ۔
○ بُرْغُوث جمع بَرَاغِيث: پسو۔ براغيث: چاندی کے چھوٹے سکے (شام میں)۔ برغوثُ البحر: ایک قسم کا جھینگا۔
○ بَرْغَش واحد برغشة: مچھر، پشہ، چھوٹا سا کیڑا۔
○ بُرْغِي جمع بَرَاغِي: پیچ screw۔

برف: البِرفِير: سرخ اور نیلے رنگ کا مرکب اودا، ارغوانی (رنگ): اس رنگ کا کپڑا۔

برق: ۱۔ بَرَقَ ۔ بَرْقًا و بُرُوقًا و بَرَقَانًا و بَرِيقًا البرقُ: بجلی کا ظاہر ہونا۔ ـــ ت السماءُ: آسمان سے بجلی کا چمکنا۔ ـــ الشيءُ: چمکنا، جگمگانا۔ أَبْرَقَ: برق زدہ ہونا، پر بجلی گرنا۔ ـــ ت السماءُ: آسمان کا بجلی چمکانا۔ ـــ بسيفه: تلوار چمکانا، تلوار سے اشارہ کرنا۔ ـــ عن وجهه: منہ کھولنا۔ البَرْق جمع بُرُوق (ف): (آسمانی) بجلی۔ کہا جاتا ہے: بَرقٌ خُلَّبٌ و برقُ خُلَّبٍ و برقُ الخُلَّب: بجلی جس کے بعد بارش نہ ہو، بے بارش کی بجلی۔ البَارِقة: بجلی والا بادل، تلواریں۔ بَرَّاقَة: بجلی والی۔ سحابة بَرَّاقة: بجلی والی بدلی۔ مَبْرَقُ الصبح جمع مَبَارِقُ و مَبَارِيقُ: صبح طلوع ہونے کا وقت۔
۲۔ بَرَقَ ۔ الرجلُ: دھمکی دینا۔ أَبْرَقَ: دھمکی دینا۔
۳۔ بَرَقَ ۔ بَرْقًا و أَبْرَقَتِ المرأةُ: عورت کا بننا، سنورنا۔ بَرَّقَهٗ: کو آراستہ کرنا۔ ـــ تِ المرأةُ: عورت کا بننا سنورنا۔
۴۔ بَرِقَ ۔ بَرَقًا: حیران ہونا، چندھیا جانا۔ البَرَق جمع أَبْرَاق و بُرْقَان: خوف، دہشت۔ البُرْقة: دہشت، خوف۔ البَرُوقُ مِنَ الرجال: بزدل آدمی۔
۵۔ بَرَّقَ عينيه و بعَينَيه: آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا۔
۶۔ بَرَّقَ: لمبا سفر کرنا۔ أَبْرَقَ: تار بھیجنا۔ البَرق (ف): ٹیلیگراف Telegraphe۔ دائرةُ البريد و البرق: محکمہ ڈاک و تار۔ البَرْقِية: ٹیلیگرام، تار، وائر، کیبل۔
۷۔ البَرَق جمع أَبْرَاق و بُرْقَان (ح): بھیڑ کا بچہ۔ البُرقة جمع بُرَق و الأَبْرَق جمع أَبَارِق (تصغير الأُبَيْرِق): پتھر، ریت مٹی ملی ہوئی سخت زمین۔ الأَبْرَق: سیاہ و سفید رنگ والا۔ التبارِيق: تھوڑا گھی یا تیل جو کھانے میں ڈالا جائے۔
۸۔ بَرْقَعَ بَرْقَعةً و تَبَرْقَعَ وجهُهٗ: بدشکل ہونا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا آلودہ ہونا۔
۹۔ بَرْقَشَ بَرْقَشةً ہ: کو مختلف رنگوں سے آراستہ کرنا۔ ـــ في الكلام: بے سروپا باتیں کرنا۔ تَبَرْقَشَ: مختلف رنگوں سے آراستہ ہونا۔ البِرْقِش (ح): ایک دلکش آواز اور رنگیں پروں والا پرندہ۔ أبو بَرَاقِش (ح): ایک چھوٹا سا پرندہ جس کے پر اوپر سے خاکی بیچ سے سرخ اور نیچے سے سیاہ ہوتے ہیں۔ جب پر کھولتا ہے، رنگ برنگ الوان دکھائی دیتے ہیں۔ اسکا اطلاق مجازاً متلون مزاج شخص پر بھی ہوتا ہے۔ البُرْقُوش: پرانا جوتا۔
۱۰۔ بَرْقَطَ: چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا، پیچھے جھانکتے ہوئے واپس جانا۔ ـــ الكلامَ: بے ربط و بے ترتیب کلام کرنا۔
۱۱۔ بَرْقَعَ المرأةَ: عورت کو برقع پہنانا۔ تبرقعت: عورت کا برقع پہننا۔ البُرْقُع جمع بَرَاقِع: برقعہ، عورت کا روپوش۔

۱۲- بَرقَلَ: جھوٹ بولنا۔ البَرقَلَة: عمل سے خالی بات۔ البرقِيل (ا ع): ایک جنگی ہتھیار، جس کے ذریعے گولی اور پتھر وغیرہ پھینکا کرتے تھے۔

۱۳- البَرقُوق (ن): جنگلی آلو بخارا، زرد آلو بخارا۔

۱۴- البَرْوَاق و البَرْوَق(ن): ایک لمبی ڈنڈی اور بہت پھولوں والا پودا، جو آرائش کے لئے استعمال ہو جاتا ہے، بکریاں اسے نہیں کھاتیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بادل آجاتے ہیں تو برسے بغیر یہ پودا سبز ہو جاتا ہے۔ اسی سے ضرب المثل ہے: اشكرُ من بَروَقةٍ: بروقہ سے زیادہ شکرگزار۔ بروقہ ایک چھوٹا پودا جو ذرا سی نمی میں اُگ آتا ہے۔

○ بَرَقَ ـ برقاً: چمکنا، روشن ہونا، دمکنا، بھڑک اٹھنا، شعلہ فشاں ہونا، یکا یک نظر آنا۔ برقت السماء: بجلی چمکی۔ أبرَقَ: چمکنا، دمکنا، یکا یک نظر آنا، شعلہ فشاں ہونا، بادل کا بجلی، بجلی کے کوندے ظاہر کرنا، چمکنا، (چہرے کا) روشن تر ہونا۔ ـــ إلي: کو تار بھیجنا، بحری تار بھیجنا۔ بَرق جمع بُرُوق: بجلی، بجلی کا شعلہ، ٹیلیگراف۔ برقٌ خُلَّب: بارش کے بغیر بجلی کا کوندا (مجازاً): وعدے کر کے پورے نہ کرنے والا۔ بَرقِي: ٹیلیگراف کا، کے متعلق۔ بَرقِيَّة جمع برقيات: ٹیلیگراف، تار، بحری تار۔ بَرِيق جمع بَرَائِق: چمک دمک، چمکتی ہوئی سطح، شان و شکوہ۔ ذُو بريقٍ معدني: دھاتی چمک دمک سے چمکایا ہوا، دھاتی چمک دمک کی تہہ چڑھا ہوا، ملمع شدہ۔ بُراق: ایک جانور کا نام جس پر سوار ہو کر نبی کریم ﷺ کا سات آسمانوں پر جانا بیان کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سفید آبی پرندہ۔ بَرّاق: روشن، چمک دار، تابندہ، درخشاں، شعلہ فشاں، جگمگاتا۔ مَبْرِق: چمک، دمک، شعلہ۔ في مَبْرِقِ الصبح: صبح کے وقت سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ۔ بَارِقُ الامل: امید کی جھلک۔ بَارِقة جمع بَوَارِق: جھلک، چمک، جگمگاہٹ۔ مُبْرِق كاتِب: ٹیلی ٹایپ tele-type۔

○ البَرقَة: مشرقی لیبیا کا علاقہ Cyrenaica۔

○ بَرقَش برقشةً ہ: کو بوقلموں کرنا، کئی رنگوں سے رنگنا یا لیپنا، کو سجانا، کی تزئین کرنا، پیچ در پیچ نکالنا۔ ـــ قوله: اپنی تقریر کو نمک مرچ لگا کر زیب داستان کے لئے بڑھانا۔ بِرقِش: ایک قسم کی چھوٹی چڑیا۔ بَرقَشَة: رنگین مجموعہ، رنگارنگی، بوقلمونی۔ مُبَرقَش: رنگین، رنگ دار، بوقلموں، کئی رنگوں کا۔

○ بَرقَعَ ہ/ ہ: کو نقاب اڑھانا، چھپانا، آراستہ کرنا۔ تَبَرقَعَ: نقاب اوڑھنا، برقع پہننا۔ بُرقُع جمع بَرَاقِع: برقعہ۔

○ بَرقُوق واحد بَرقُوقَة: آلو بخارا۔

برك: ۱- بَرَكَ ـ بُرُوكاً بالمكان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ ـــ بُرُوكاً و تَبرَاكاً و بَرَكَ و استَبرَكَ البعيرُ: اونٹ کا اپنا سینہ زمین سے لگا کر بیٹھنا۔ أبرَكَهُ: اونٹ کو بٹھانا۔ إبتَرَكَ فلاناً: کو پچھاڑ کر اپنے سینے کے نیچے لانا۔ ـــ فلاناً في عرضهِ و عليه: کو گالیاں دینا اور اس کی توہین کرنا۔ ـــ القومُ: لوگوں کا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جنگ کرنا۔ البَرْك: سینہ، بیٹھے ہوئے اونٹوں کا گلہ واحد بَارِك مونث باركة جمع بُرُوك۔ البِركَة جمع بِرَك: اونٹ کے بیٹھنے کی ہیئت۔ البَرِيك: اونٹ۔ المَبْرَك: اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: ليس لفلانٍ مبرَكُ جمل: فلاں کے پاس کچھ نہیں۔

۲- بَرَّكَ ـ فيه: کے لئے برکت کی دعا کرنا۔ بَارَكَ الرجلَ: کے لئے برکت کی دعا کرنا، سے راضی ہونا۔ ـــ اللّٰهُ لك و فيك و عليك و بارَكَكَ: اللہ تجھے مبارک کرے کہتے ہیں: بارِكْ على الانبياء و آلهم: اللہ تعالیٰ تو نے انبیاء اور ان کی اولاد کو جو شرافت و بزرگی و عزت بخشی ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھ۔ بُورِكَ فيكَ: دعا کے طور پر نہیں بلکہ سائل کو جسے دور کرنا مقصود ہو اسے اس طرح خطاب کیا جاتا ہے۔ تَبَرَّكَ بِه: سے برکت حاصل کرنا، میں نیک فال دیکھنا۔ تَبَارَكَ اللّٰهُ: ذات خداوندی کا مقدس ہونا۔ ـــ بِه: سے نیک فال لینا۔ إستَبرَكَ: برکت کی فال لینا۔ البَرِيك: برکت والا۔ البَرَكَة: نیک بختی، نماز کے خاتمہ پر پادری کی دعاء، بڑھوتری، زیادتی۔

۳- إبتَرَكُوا في العَدْوِ: تیز دوڑنے کی کوشش کرنا۔

۴- البُرْكة جمع بُرَك و أبرَاك و بُركان: چکی والے کی اجرت و مزدوری۔ (ح): ایک چھوٹا سفید آبی پرندہ۔ البِركَة جمع بِرَك (ح): دودھ دینے والی بکری، جوہڑ، تالاب، حوض۔ بِـــركِيَّة (ن): جوہڑوں کے کنارے اگنے والی نباتات۔ البَرَّاك: چکی والا آٹا پیسنے والا، آٹا پیسنے کی اجرت لینے والا۔ البَارُوك: بزدل، کابوس۔

۵- البِركار و البيكار (ہ): پرکار (فارسی لفظ)۔

۶- البُركان: کوہ آتش فشاں۔

۷- بَركعَ الفرسُ: گھوڑے کا چاروں پیروں پر کھڑا ہونا، گھٹنوں کے بل گرنا۔ ـــ ہ: کو کاٹنا، پچھاڑنا۔ تَبَركَعَ الرجلُ: سرین کے بل گرنا۔ البُركُع: پستہ قد آدمی۔

○ بَـرِكَ ـ: گھٹنوں کے بل بیٹھنا، دوزانوں ہونا۔ بَـرَّكَ و أبرَكَ ہ: اونٹ کو گھٹنوں کے بل بٹھانا۔ بَـرَّكَ على يا في: کے لئے برکت کی دعا کرنا۔ بَارَكَ ہ/في يا على: کیلئے برکت کی دعا کرنا۔ ـــ ہ: کی منظوری دینا۔ تَبَرَّكَ ب: سے خوش و خرم ہونا، سے لطف اندوز ہونا، میں خوشی و سعادت ڈھونڈنا یا چاہنا، کی برکت طلب کرنا۔ تَبَارَكَ: مبارک ہونا، تعریف کیا جانا۔ إستَبرَكَ: مبارک ہونا۔ بِرْكَة جمع بِـرَك: تالاب، جھیل، جوہڑ۔ بِـــركة السِباحَة: تیرنے کا تالاب۔ بَرَكَة جمع بَرَكات: برکت، اشیرباد، دعا، دعائے خیر۔ قِلَّةُ البركة: بدقسمتی، بدنصیبی۔ أبرَك: زیادہ مبارک۔ تَبرِيك جمع تَبرِيكات: نیک خواہش، اشیرباد، برکت، دعا، دعائے خیر۔ مُبَارَك: مبارک، خوش نصیب، خوش قسمت۔ بَـــرَارِيك: بیرکیں barrecks فوجیوں کے رہنے کے مکانات۔ بِـركار: پرکار۔ بُـركاني: کوہ آتش فشاں کا، کے متعلق یا آتش فشانی۔

برل: البَرلَمان: پارلیمنٹ parliament۔ النظام البرلماني: پارلیمانی نظام۔

○ برلماني: مجلس قانون ساز کا، پارلیمنٹ کے شایان شان، پارلیمنٹ کا منظور کردہ parliamentary۔

○ بـــرلـــمـــانية: پارلیمنٹیرت parliamentarianism۔

○ برلنتي: چمکیلا، ہیرا، الماس۔

○ بَرلِين: برلن (جرمنی کا دارالحکومت)۔

برم: ۱- بَرِمَ ـ بَرَماً و بَرَّمَ و أبرَمَ الحبلَ: دولڑیاں کر کے رسی بٹنا صفت مفعولی: مَبرُوم و بَرِيم۔ إنبَرَمَ: رسی کا بٹنا، بٹا ہونا۔ ـــ الامرَ: کام کو پختہ اور مضبوط کرنا۔ کہا جاتا ہے: قضاءٌ مُبرَمٌ: اٹل حکم یا فیصلہ۔ البَرَّام: بٹنے والا۔ البَرِيم و البِرَام: بٹی ہوئی رسی، دھاگا ڈورا، ہر بٹی ہوئی شے۔ المِبرَم جمع مَبَارِم: تکلہ۔ المَبرُومَة: بٹے ہوئے سونے کا کنگن۔

۲- بَرِمَ ـ بَرَماً: تنگ دل ہونا، بے قرار ہونا۔ أبرَمَهُ: کو ملول و پریشان کرنا، زچ کرنا۔ تَبرَّمَ: زچ ہونا۔

۳- بَرِمَ ـ بَرَماً بِحُجَّتِه: کو دلیل نہ سوجھنا۔ أبرَمَ عليه في الجدال: کسی کو لاجواب کرنے کے لئے

بحث کئے جانا۔

۴۔ البَرَم: بخیل، لئیم، درخت عضاہ کا پھل۔ البُرُم: بداخلاق لوگ۔ البُرما: ایک قسم کا میٹھا پھل۔ البُرمة جمع بُرَم و بِرام: پتھر کی ہانڈی۔ البَرِیم: لشکر۔ البَرِیمة: برما، سوراخ کرنے کا آلہ۔

۵۔ البَرْمَانی من الدواب و الزحافات (ح): چلنے اور رینگنے والا جانور جو خشکی اور تری دونوں میں رہتا ہو۔ البَرْمَانیة: خشکی اور پانی میں چلنے والی گاڑی۔

۶۔ البِرْمیل جمع بَرامِیل: پیپا۔

○ بَرَمَ ← بَرْمًا ہ: رسی کو موڑنا، بٹنا، کسی چیز کو بنانا، گول اور لمبی صورت دینا، سانچے میں ڈھالنا، آستین چڑھانا، کو مستحکم کرنا، مضبوط کرنا، نمٹانا، قائم کرنا۔ اَبْرَمَ ہ: رسی کو مروڑنا، بٹنا، گوندھنا، کو مستحکم کرنا، قائم کرنا، نمٹانا: فیصلہ کرنا، (معاہدہ) طے کرنا، عدالتی فیصلہ وغیرہ کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا۔ اِنْبَرَمَ: نمٹ جانا، قائم ہونا، کسی توثیق و تصدیق ہونا، مڑنا، بٹنا۔ بَرّامَة جمع بَرّامات: برما dirlling machine۔ بَرِیم: رسا، رسی، دھاگا، ڈوری، تسلی۔ بَرِیمَة جمع بَرِیمات: برما، سوراخ کرنے کا آلہ، چھوٹا برما، لگام کا دہانہ، کاگ پیچ، پیچ کش۔ اِبرام: تصفیہ، توثیق، معاہدہ وغیرہ کا طے پانا۔ محکمة النقض و الابرام: عدالت تنسیخ۔ سِلكٌ مبروم: تار، رسی، کیبل۔ مُبْرَم: محکم، مضبوط، اٹل، نا قابل تنسیخ، ٹھیک طور پر قائم، تصدیق شدہ، توثیق شدہ۔ قضاء مُبْرَم: ناگزیر تقدیر۔ بِصُورَةٍ مُبْرَمَة: اٹل صورت میں۔

○ بُرْمَة جمع بُرَم و بِرَام: مٹی کا برتن۔

○ بُرما: برما (ایک ملک کا نام) جل بھوی۔

○ بَرْمانی: زمین اور پانی دونوں جگہ رہنے یا کام کر سکنے والا جانور یا گاڑی۔ دبّابة برمائیة: جل بھوی ٹینک۔

○ برمائیة: جل تھلیا، جل بھومیا۔

○ بَرِمَ ← بَرَمًا ب: سے تھکنا یا تھک جانا، سے بیزار ہونا، اکتا جانا، کو برہم کن پانا، تھکا دینے والا یا اکتا دینے والا پانا۔ تَبَرَّمَ ب: پر برہم محسوس کرنا، سے ناراض و ناخوش ہونا، سے اکتا جانا، بیزار ہو جانا۔ — ب/من: سے تھک جانا، سے بیزار ہونا۔ تَبَرَّمَ: بے صبر ہونا، تنگ آجانا، برداشت نہ کر سکنے والا ہونا، غیر مطمئن ہونا، غیر قانع ہونا، رنجیدہ ہونا، تکلیف زدہ ہونا، دکھی ہونا۔ بَرِمٌ ب: سے تھکا ہوا، پر غصہ میں، طیش میں۔ ——: غیر مطمئن، غیر قانع۔ تَبَرُّم: تھکاوٹ، بوریت، اکتاہٹ، بیزاری، بے اطمینانی، ناخوشی، عدم اطمینان، گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی، بے کلی، بے آرامی، الجھن، برہمی، جھنجھلاہٹ۔ مُتَبَرِّم: برہم، خفا، ناراض، بگڑا ہوا، چڑچڑا، پریشان۔

○ بَرْمَانَنْت: مستقل لہر۔ برمانَنت علی البارد: (بالوں میں) ٹھنڈی لہر۔

○ بَرْمَق جمع بَرامِق: کٹہرے کا کھمبا (پیے کی) میخ۔

○ بَرَمَهات: قدیم مصری جنتری کا ساتواں مہینہ۔

○ بِرْمِنْگَهام: برمنگھم (ایک شہر کا نام)۔

○ بَرْمُودَة: قدیم مصری جنتری کا آٹھواں مہینہ۔

○ بِرمِیل جمع بَرامِیل: پیپا، چھوٹا پیپا، لکڑی کا پیپا، شراب کا بڑا پیپا۔

برن: ۱۔ البَرنَاسیّة: شاعری میں تخیلی مسلک کی مخالفت اور لفظی فن اور شعری حسن سے شگفتگی پر توجہ کا مسلک۔

۲۔ البَرنَامَج جمع بَرامِج: اصل میں حساب کی جامع دستاویز، پروگرام، منصوبہ، جدول تفصیلات، گوشوارہ، نقشہ اوقات، بدلی جدول، فہرست، اشاریہ، نصاب، بجٹ۔

۳۔ بَرْنَسَه فَتَبَرْنَسَ: کو برنس پہنانا، پھر اس کا برنس پہن لینا۔ البُرْنُس: وہ لباس جس کا ایک حصہ ٹوپی کے طور پر استعمال ہو، آغاز اسلام میں پہنی جانے والی لمبی ٹوپی۔ بِرِنس مونث بِرِنِیس: شہزادہ، حاکم خاندان کے ہر رکن کا لقب (فرانسیسی)۔

۴۔ البُرنَیطَة: ٹوپی، ہیٹ (اٹلی زبان کا لفظ)۔

۵۔ البَرْنِیَّة جمع بَرانِیّ: مٹی کا برتن۔

○ بُرْنُجك: جالی، کریپ (crepe)۔

○ بُرْنُس جمع بَرانِس (نیز بَرْنُوس و بُرنُوس جمع برانیس): ٹوپی دار لبادہ۔ بُرنُس الحمّام: غسل کا لباس۔ بَرَانِسی جمع بَرانِسِیّة: ٹوپی دار لبادے بنانے والا۔

○ جبالُ البَرانِس: پیرنیز کے پہاڑ۔

○ بَرِنس: پرنس، شہزادہ۔ برنسیة: پرنس، شہزادی۔

○ تَبَرْنَطَ: ہیٹ پہننا۔ بُرْنَیطَة جمع برنیطات و بَرانِیط: ہیٹ hat، لیمپ شیڈ lamp shade۔

برہ: ۱۔ بَرِهَ ← بَرَهًا: کی بیماری کے بعد جسم کا تندرستی کی حالت میں آنا صفت: اَبْرَه مونث بَرهاء جمع بُرْه۔ اَبْرَهَ: دلیل لانا۔ البُرْهَة و البِرْهَة جمع بُرَه و بُرهات: عرصہ، زمانہ کا کچھ حصہ۔

۲۔ البَرَاهِمة: مفرد بَرْهَمَن: ہندوؤں کے معبود برہما کے خدام۔

۳۔ بَرْهَنَ الشیءَ و علیه و عنه: پر دلیل قائم کر کے اسے واضح کرنا۔ تَبَرْهَنَ: واضح ہونا، ثابت ہونا۔ البُرْهان جمع بَرَاهِین: حجت، دلیل۔

○ بُرهة جمع بُرَهات و بُرَه: عرصہ، وقت، تھوڑا عرصہ، تھوڑا وقت، لمحہ۔ بُرَیْهَة: تھوڑی دیر، تھوڑا عرصہ۔ بعد برهتین: دو منٹ بعد، تھوڑی مدت میں۔

○ بَرْهَمِیَّة: برہمیت۔ بَرْهَنَ علی/عن: کو ثابت کرنا، واضح کرنا، بیان کرنا۔ بُرهان جمع بَرَاهین: ثبوت۔ بَرْهَنَة: ثابت کرنا، واضح کرنا، بیان کرنا۔

برو: ۱۔ البِرواز: چوکھٹا، فریم، عربی الاصل لفظ: اِطار ہے۔

۲۔ البُرو تستو: تثنیہ بُرو تستوان جمع بُرو تِستوات: نوٹری کا اعلان کہ ہنڈی باضابطہ نہیں اور ادائگی سے انکار کیا گیا۔ عذرداری (protest)۔

۳۔ البُروتِسْتَانی: دین مسیحی کا ایک فرقہ کا پیروکار جس کا بانی لوتھر تھا، معترض یا مصلح فرقہ کا ماننے والا یا اس کا یا اس کے متعلق۔ یہ فرقہ بروتسقانیة کہلاتا ہے۔

۴۔ بروتون (ف): پروٹون، مثبت برقیہ۔

۵۔ البرولیتاریا: محنت کش طبقہ pruletariat۔

۶۔ البروم (ك): سمندر کے پانی سے نکالا جانے والا سرخ زہریلے مائع کی شکل میں بدبودار مادہ (barium)۔ بُرُومُور (ك): بروم اور جسم بسیط کا مرکب۔

۷۔ البُرونز او الصفر (ك): کانسی (bronze)۔

۸۔ البَرُومِتر: ہوا پیا، بار پیا barometer۔

○ بَرْوَة: ردی، ردی ٹکڑا۔

○ بَرُوتِستانی: پروٹسنٹ، احتجاجی مسیحی جمع بروتستانیون: ایک پروٹسنٹ، احتجاجی مسیحی۔ بَرُوتُستانیة: پروٹسنٹ عقائد، پروٹسنٹ مذہب (عیسائیت کا ایک فرقہ)۔

○ بَرُوتُوكُول: پروٹوکول، حکومتی معاہدہ کی اصل دستاویز، سفیروں کے استقبال کا محکمہ۔

○ بَرُوجرام: پروگرام (programe)۔

○ بُرُوجِی جمع بُرُوجِیه: رسالہ کا ترچی، بگل بجانے

والا، بکلچی۔

○ بَـرْوَزَ: چوکھٹے میں جڑنا، فریم لگانا۔ بَـرْواز و برواز: فریم، چوکھٹا۔

○ بَـرُوسِیا: پرشیا Prussia۔ (ایک ملک کا نام)۔ بُرُوسی: پرشی، ملک پرشیا کا باشندہ۔

○ بَـرُوفَة و بَرُوفُة جمع بروفات و بروفات: تجربہ، پروف شیٹ Proof-sheet۔ ریہرسل (rehearsal)

○ بَرُونزی: کانسی کا۔ العصر البرونزی: کانسی کا زمانہ، عہد یا دور۔

برا: بَرَا ۔ بَـرْوًا و أبْرَى إبْرَاءً الناقةَ: اونٹنی کی ناک میں چھلا یا حلقہ ڈالنا۔ البُرَة جمع بُرًى و بُرات و بُـرِین و بِرِین: کوئی حلقہ دار چیز مثلاً کنگن، بالی یا پازیب وغیرہ۔ کہا جاتا ہے: آتتـهُ الـدنیـا بُرَتَها: اس نے دنیا بہت پائی۔

بری: ا۔ بَرَى ۔ بَرْیًا و ابْتَرَى السهمَ او القلمَ: تیر یا قلم کو تراشنا صفت مفعولی: بَـرِی و مَبْـرِی۔ اِنْبَرَى: تراشا جانا، ترشنا۔ بَرَى ۔ الشخصَ: کو دبلا کرنا، کمزور کرنا۔ البَـارِی: تیر تراش۔ ضرب المثل: اعطِ القـوسَ بـاریَـهـا: کمان کو اس کے تراشنے والے کے سپرد کرو مراد کام اس کو دو جو اسے کرنے کا اہل ہو۔ البُـرایَة و البُـراء: تراشہ، چھیلن۔ البَـرَّاءَـة والمِـبْـرَاء و المِبْراة: چاقو، چھری، تراشنے کا آلہ۔ الإبْـرِیَة والتِبْـرِیَة: سر کی بھوسی جو کنگھی کرتے وقت گرتی ہے۔

۲۔ أبْرَى: کو مٹی لگنا۔ البَرَى: مٹی، غبار۔

۳۔ بَارَى امرأتَهُ: اپنی عورت سے فراق پر صلح کرنا۔ ۔ الرجُلَ: سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تَبَـارَیَا: آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ اِنْبَرَى لـه: کو پیش آنا۔ تَبَرَّى لـمعـروفه: بھلائی کے درپے ہونا۔

۴۔ البَـارِی (فا): خالق، پیدا کرنے والا، اصل برأ کی ہمزہ ہے۔ البَرِیَّة: دیکھو برأ۔

۵۔ البریقة: ابتدائی اعلیٰ سرٹیفکیٹ۔

○ بَـرَى ۔ بَـرْیًا ہ: کو تراشنا، چھانٹنا، شکل دینا، قلم یا پنسل تراشنا، کو چھیل کر اتارنا، کھرچ کر اتارنا یا صاف کرنا۔ ۔ ہ: کو تھکانا، دبلا کرنا، کمزور کرنا، نحیف کرنا، کی قوت ختم کرنا۔ بَارَاہ: سے مقابلہ کرنا، سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تَبَـارَى: مقابلہ کرنا، حریف یا رقیب ہونا، مقابلہ میں دوبدو ہونا، (کسی کھیل میں) ایک دوسرے کی طاقت آزمانا۔ اِنْبَـرَى: ترشنا، چھلنا، تیز ہونا۔ ۔ ل: کی مخالفت کرنا، کے مقابلہ میں آنا، سے مقابلہ کرنا، کو ہاتھ میں لینا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑا اٹھانا، کچھ کرنے لگنا، کا آغاز کرنا۔ ۔ من: سے علیحدہ ہونا۔ بَـرَم: غبار، مٹی۔ بَرَّایَةُ القلم: پنسل تراش Pencilsharpner۔ مِبراة: جیبی چاقو۔ مُبَارَاة جمع مُباریات: مقابلہ، ٹورنامنٹ، میچ، رقابت، مدمقابل ہونا، حریف ہونا۔ مُتَبَـارٍ: مقابلہ میں حصہ لینے والا، مقابل، حریف۔

○ بریطانیة: برطانیہ۔ البریطانیا العظمیٰ: برطانیہ عظمیٰ۔ بریطانی: برطانوی، برطانیہ کا۔

بز: بَزَّ ۔ بَزًّا و بِزِّیزَی ہ: پر غالب آنا۔

۲۔ بَـزَّ ۔ بَـزًّا و بِـزِّیـزَی ہ: کے کپڑے اور اسلحہ اتار لینا۔ ۔ الشیءَ منه: کو سے چھین لینا۔ اِبْتَزَّ منه الشیءَ: سے کچھ زبردستی چھین لینا۔

۳۔ البَـزّ جمع بُـزُور: ہتھیار، کتان یا روئی کے کپڑے۔ البِـزَّة: کپڑے، ہتھیار، ہیئت۔ البَزَّاز: پارچہ فروش، کپڑے بیچنے والا۔ البِزَازَة: پارچہ فروشی، کپڑے کی تجارت۔

۴۔ بَـزْبَـزَ: تیز چلنا، سختی سے ہانکنا، بھاگ جانا، بہت حرکت کرنا۔

○ بَزَّ ۔ بَزًّا ہ: سے کوئی چیز چرانا، لے جانا، چھین لینا، کو سے محروم کرنا، کو لوٹ لینا۔ ۔ ہ: کو شکست دینا، سے آگے نکل جانا، سے بازی لیجانا، سبقت لیجانا، پر فتح پانا۔ اِبْتَزَّ ہ: کو چرا لینا۔ ۔ من: روپیہ وغیرہ کسی سے چھین لینا۔ ۔ ہ: کو لوٹ لینا۔ ابتزوا اموال الـنـاس: لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا، اڑا لینا۔ اِبتِزاز: چوری، ڈاکہ، لوٹنا، مال اڑانا۔ بَزَّ ۔ بَزًّا: کونپل پھوٹنا۔ بُـزّ و بِـزّ جمع بزاز و أبْزاز: نپل، پستان کا منہ، سرپستان، چوچی، تھن، پستان۔ بَزّ جمع بُزُوز: لینن (کپڑا)، کپڑا، خشک اشیاء۔ بِـزَّة: کپڑے، لباس، یونیفارم، وردی۔ بِـزَّة (رسمیة): وردی، یونیفارم۔ بَـزَّاز: پارچہ فروش۔ بِـزازَة: پارچہ فروشی۔ بَـزْبُور جمع بَزَابِیر: ناک، تھوتھنی، ٹونٹی، دہانہ، منہ، پرنالہ۔

بـزب: البَـزْبُـورط و بـسـابـورط: پاسپورٹ Passport۔

بزج: ا۔ بَزَجَ ۔ بَزجًا علی فلانًا: اس نے میرے خلاف کسی کو بھڑکایا، اکسایا۔

۲۔ بَـزَجَ ۔ بَـزَجًا: فخر میں مقابلہ کرنا۔ بَـازَجَهُ و تَبـازجا: باہم فخر کرنا۔

۴۔ بَزَّجَهُ: کو آراستہ کرنا، خوبصورت کرنا۔

بزخ: بَزِخَ ۔ بَزَخًا: ابھرے ہوئے سینے اور اندر کی جانب دبی ہوئی کمر والا ہونا صفت: أبْـزَخ مونث بَزْخَاء جمع بُزْخ۔ تَبَازَخ: ابزخ کی سی چال چلنا یا اس جیسی بیٹھک بیٹھنا۔ تَبَزَّخَ له: سے فروتنی کرنا۔

۳۔ تَبَـازَخَ عن الامر: کسی کام سے پیچھے ہٹنا یا پیچھے رہنا۔

بزر: ا۔ بَزَرَ ۔ بَزْرًا الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

۲۔ بَـزَرَ و بَـزَّرَ القدرَ: ہانڈی میں مسالہ ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: فلان بزر کلامَهُ و تَوبَلَهُ: فلاں نے اپنے گفتگو میں نمک مرچ ملایا۔ البِـزْر جمع أبْـزار و جمع الجمع ابَازِیر: مصالحہ۔ کہتے ہیں: مثلی لا یخفی علیه ابازیرُك: مجھ جیسے سے تمہاری گپ شپ چھپی نہیں رہ سکتی۔ البَـزَّار: مصالحہ بیچنے والا۔ البِیْزَر: ہاون دستہ۔

۳۔ بَزَرَ ۔ بَزْرًا الحبوبَ: بیج بونا۔ البِزْر جمع بُـزُور واحد بِزْرَة: بیج، تخم۔ البَزَّار: بیج فروخت کرنے والا۔

۴۔ البَیْزَر: دھوبی کی موگری۔ البَـزْراء: المرأة البَزْرَاء: کثیر الاولاد عورت۔ البَیْزار جمع بَیَازِرَة: باز پالنے والا، کا شکار (فارسی لفظ)۔

○ بَـزَرَ ۔ بَـزْرًا: بونا۔ بـزر جمع بُـزُور: بیج جمع أبزار و ابازیر: مصالحہ۔ بِزْرَة: بیج، گری، گٹھلی، وہ کلا جو پہلی بار بیج سے نکلتا ہے۔ بَـزَّار: بیجوں کا تاجر، تخم فروش۔ بُـزَیْـرَة جمع بزیرات: تخمک (spore)۔

بزع: ا۔ بَـزُعَ ۔ بَـزَاعَةً الغلامُ: لڑکے کا خوش طبع ہونا، ظریف ہونا صفت: بَـزِیع مونث بَزِیعَة۔ تَبَـزَّعَ الغلامُ: تکلف ظریف بننا۔ البُـزَّاع و البَـزِیع من الغلمان: بے جھجک اور بے دھڑک بولنے والا لڑکا۔

۲۔ تَبَزَّعَ الشرُّ: فتنہ اور برائی کا سنگین ہونا۔

۳۔ البُزَّاع: زکی و چرب زبان لڑکا۔ البَزِیع: شریف آدمی۔

بزغ: ا۔ بَزَغَتْ ۔ بَزْغًا و بُزُوغًا الشمسُ: سورج کا طلوع ہونا، نکلنا۔ اِبْتَـزَغَ الربیعُ: موسم بہار کا شروع ہونا۔ بَـوَازِغ: نـجـوم بـوازِغ: طلوع ہونے والے ستارے۔

۲۔ بَزَغَ ۔ بَزْغًا و بُزُوغًا دَمَهُ: کا خون بہانا۔ ۔ الحاجمُ او البیطارُ: پچھنے لگانے والے یا سلوتری

کانشتر لگانا۔ المِبزَغ: نشتر۔

○ بَزَغَ ـُ: باہر آنا، (دن کا) نمودار ہونا، صبح ہونا، پو پھٹنا، سورج کا نکلنا۔ بُـزُوغ: نمود، ظہور، آشکارا ہونا، ظاہر ہونا، طلوع آفتاب۔

بزق: بَزَقَ ـُ بَزقًا: تھوکنا۔ البُزَاق: تھوک۔ البُزَاق واحد بُزَاقة (ح): ایک قسم کا گھونگا۔ بُزُق: طمبور۔ الباش بُزُق: فوجی رسالہ (ترکی لفظ)۔

○ بُـزَاق: تھوک، لعاب دہن۔ بُـزَاقَة: گھونگا، ناگ۔ مِبزَقَة جمع مَبَازِق: اُگالدان۔

بزل: ۱۔ بَزَلَ ـُ بَزلاً و بَزَّلَ الشيءَ: چیز میں شگاف کرنا، سوراخ کرنا۔ تَبَزَّلَ و انبَزَلَ: سوراخ ہونا۔ ـ الشرابَ: شراب صاف کرنا۔ تَبَزَّلَ و ابتَزَلَ الخمرَ: شراب کے برتن میں سوراخ کرنا۔ اِستَبزَلَ الخمرَ: شراب کو صاف کرنا۔ البِزَال: برما، سوراخ کرنے کا اوزار۔ البُزَال: شراب کے مٹکے کا سوراخ۔ المِبزَل: برما، فلٹر، شراب صاف کرنے کا آلہ۔

۲۔ بَزَلَ ـُ بَزلاً و بَزَّلَ الشيءَ: کو پھاڑنا۔ بَزَلَ ـُ بُزُولاً البعیرُ: اونٹ کا دانت نکلنا۔ ـــ نابُ البعیر: اونٹ کے دانت (کچلیاں) کا نکلنا، اونٹ اور اونٹنی جس کا دانت نکلے۔ بَازِل جمع بَوَازِل و بُزَّل و بُزُل۔ تَبَزَّلَ الشیءُ: پھٹنا۔ اِنبَزَلَ الجسدُ: جسم سے خون ٹپکنا۔ ـ السقاءُ: مشک کا ٹپکنا۔ اِستَبزَلَ الشیءَ: کو کھولنا۔ البَازِل: تازہ پھوٹا (نکلا) ہوا دانت۔

۳۔ بَزَلَ ـُ الأمرَ: کام کو کر گزرنا۔ ـــ و بَزَّلَ رأیَهُ: نئی رائے دینا۔ البَازِل: تجربہ کار مرد۔ کہتے ہیں: رُمِیَ بأشهب بازِل: وہ سخت اور دشوار معاملہ میں الجھ گیا۔ البَزْلاء: عمدہ رائے (کہا جاتا ہے: امرأة بزلاء الرأی: عمدہ رائے والی عورت۔ خِطّة بَـــزلاء: صاف اور واضح طریق کار)۔ بڑی مصیبت۔ البَزل: شدت۔

۴۔ البُزَل (ح): ایک قسم کا پہاڑی بکرا۔

○ بَزَلَ ـُ بَزلاً ه: کو لمبائی کے رخ پھاڑنا، چیرنا، میں سوراخ کرنا، (کسی چیز خصوصاً لکڑی کے پیپے) میں چھید کرنا، (میں) سوراخ کرنا، (سے) مواد نکالنا، (مائع چیز) کو صاف کرنا، مقطر کرنا۔ بَزْل: سوراخ، چھید، مواد نکالنا۔ بُـزَل: (لکڑے کے پیپے) کا ڈاٹ۔ مِبزَل جمع مَبَازِل: ڈاٹ، ٹونٹی۔

○ بِزلة و بِزلاً: سبز مٹر۔

بزم: بَزَمَ ـِ بَزمًا علیه: کو آگے کے دانتوں سے کاٹنا۔ ـ بالشیءِ: کو اٹھانا۔ ـ فلانًا ثوبَهُ: کے کپڑے لوٹ لینا۔ ـــ الناقةَ: اونٹنی کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دوہنا۔ ـــ وترَ القوسِ: کمان کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کھینچ کر چھوڑنا۔ البَزِیم: کھجور کی چھال یا پتہ جس سے ترکاری کا منہ باندھا جائے، ہانڈی کے پیندے میں گوشت کے سوا باقی ماندہ شوربا۔

○ ابزیم جمع اَبَاریم: بکسوا، بکلس۔

○ بِزمُوت: ایک قسم کی دھات، پھول کانسی۔

○ بِزَنطی: بازنطینی باشندہ یا طرز تعمیر by zantine۔

بزا: بَزَا ـُ بَزوًا علیه: پر دراز دستی کرنا۔ ـــ ه و أبزاه و أبزی علیه: پر غالب آنا۔ بَزَا و بَزِیَ یَبزَی بَزًا و أبزَی اِبزَاءً: ابھرے ہوئے سینے اور دبی ہوئی کمر والا ہونا صفت: أبزَی مؤنث بَـزوَاء۔ تَبَازَی: باز سے مشابہ ہونا۔ سرین ہلاتے ہوئے چلنا۔ البَزو: مثل، نظیر۔ البَزِی: دودھ پیتا بچہ۔ کہا جاتا ہے: هو بزیبی: وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ البَزَاء: شیخی، ڈینگ۔ البَاز والبَازِی: باز (پرندہ)۔

○ باز جمع بُزَاة و بَوَاز و بِیزان: باز، شکرہ، شاہین۔

بس: ۱۔ بَسَّ ـُ بَسًّا الإبلَ: اونٹوں کو نرمی سے ہانکنا اور بس بس کہنا۔ أبَسَّ الابلَ: اونٹوں کو نرمی سے ہانکنا اور بس بس کہنا۔ ـــ بالناقة: دوہنے کے لئے اونٹنی کو چکارنا۔ اِنبَسَّ: بہنا۔ بِس بِس و بُس بُس: بکریوں اور اونٹوں کو بلانے یا دھمکانے کا کلمہ۔ بَس۔ البَسُوس جمع بُسُس: وہ اونٹنی جو بغیر بس بس کہنے کے دودھ نہ دے۔

۲۔ بَسَّ ـُ القومَ عنه: لوگوں کو دھتکار دینا۔ اِنبَسَّ: ایک طرف ہٹنا۔ بَس: اسم فعل بمعنی بس۔

۳۔ بَسَّ ـُ المالَ فی البلاد: مال کو ملک میں پھیلا دینا۔ ـ عقاربَه: اپنی چغلخوریاں بھیج دینا۔

۴۔ بَسَّ ـُ السویقَ: ستو میں گھی یا تیل ملانا۔ البَسِیسَة: گھی یا زیتون میں ملا ہوا آٹا یا ستو۔ عام لوگ اسے مسیمہ کہتے ہیں۔

۵۔ البَسّ والبِس جمع بساس (ح): بلا، گوشش۔ البَسِیس: تھوڑا سا کھانا۔ البَسُوس: جساس بن مرۃ البکری کی خالہ جس کی وجہ سے بنی بکر و بنی تغلب کے درمیان وہ جنگ ہوئی جو حرب بسوس کے نام سے مشہور ہے۔ اور نحوست کے بارے میں ضرب المثل ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: اشأم من البسوس: بسوس سے زیادہ منحوس۔

۲۔ بَسبَسَ بالغنم او الابل: بکریوں اور اونٹوں کو بس بس کہہ کر بلانا۔ ـــ به: کسی سے بس کہنا (یعنی اتنا ہی کافی ہے)۔ البَسبَس جمع بَسَابِس: بے آب وگیاہ زمین، بیابان۔ تُرَّهَاتُ البَسَابِس و التُرَّهَاتُ البَسَابِس: باطل اور جھوٹی باتیں۔

○ بَسَأ ـَ بَسَأ به: کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرنا، کا گہرا یا جگری دوست ہونا، سے بے تکلف مراسم ہونا۔

○ بسارابیا: Bessarabia۔

○ بَسبَاس و بَسبَاسَة: جوتری، جاوتری mace، سونف، سویا (fennel)۔ بَسبُوسَة: آٹا، پگھلے ہوئے مکھن، چینی اور تیل سے بنا ہوا سموسہ۔

○ بَستِیلِیَة: کوزہ، چوسنے والی میٹھی ٹکیاں (خواہ دوا کے طور پر)۔

بست: ۱۔ البُستَان جمع بَسَاتِین: باغ۔ البُستَانی: باغ والا، باغبان۔ ـــ من النبات: باغ میں لگائے ہوئے پودے (یعنی جنگلی پودے نہیں)۔

۲۔ بَستَرِینَه: (مسیحیوں کے ہاں) سال نو پر پیش کئے جانے والے تحائف (اٹلی زبان کا لفظ)۔

○ بُستَنَة: باغبانی، فن باغبانی۔

○ بِستُون و بِستِن جمع بَسَاتِن: پسٹن (piston)۔ بِستُونی: (تاش میں) حکم۔

○ بَسخَة: ایسٹر، عید الفصح۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مصائب بیان کرنے کا ہفتہ۔

بسر: ۱۔ بَسَرَ ـُ بَسرًا و بُسُورًا: ترش رو ہونا صفت: بَاسِر: اس لئے شیر کو بسور کہا جاتا ہے۔ اُبتُسِرَ لونُهُ: کا رنگ کا متغیر ہونا۔

۲۔ بَسَرَ ـُ بَسرًا ه: پر غالب آنا۔ ـــ و أبسَرَ القرحةَ: زخم سے مواد نکال کر پٹی باندھنا۔

۳۔ بَسَرَهُ ـُ بَسرًا: سے جلدی کرانا۔ ـــ النخلةَ: کھجور کے درخت میں قبل از وقت قلم لگانا۔ ـــ و تَبَسَّرَ و اِبتَسَرَ الحاجةَ: بے وقت حاجت طلب کرنا۔ أبسَرَ النخلُ: درخت خرما میں کھجوروں کا گدرا جانا۔ ـــ النخلةَ: کھجور کے درخت میں قبل از وقت قلم لگانا۔ البُسر واحد بُسرَة جمع بِسَار: ادھ کچی کھجور، گدر کھجور۔

۴۔ بَسَرَهُ ـُ و أبسَرَهُ النباتَ: کو تر گھاس چرانا۔ اِبتَسَرَ الشیءَ: کو تازہ لینا۔ البُسر: ہر تازہ شئے۔

۵۔ اِبتَسَرَ بالامر: کام شروع کرنا۔

٦۔ البَشَر: ٹھنڈا پانی۔ کہا جاتا ہے: وجہٌ بَشَرٌ: ترش رو۔ الباسُور جمع بواسیر (طب): بواسیر کی بیماری۔ المَبْسُور: بواسیر کی بیماری میں مبتلا۔ المُبْسِرات: بارش کا پتہ دینے والی ہوائیں۔

○ بَسَرَ ـ بُسُورًا: ناک بھوں چڑھانا، تیوری چڑھانا، غضب آلود نگاہوں سے گھورنا، چیں بجبیں ہونا، خفگی کی نگاہ سے دیکھنا، آنکھیں نیلی پیلی کرنا۔ بَسَرَ ـ بَسْرًا و اِبْتَسَرَہ: کو وقت سے بہت پہلے شروع کرنا، پر قبل از وقت کارروائی کرنا، میں جلد بازی کرنا۔ بُسْر اسم جنس واحد بُسْرَة) جمع بِسار: گدر کھجوریں۔

بسط ۱۔ بَسَطَ ـ بَسْطًا الرجلَ: کو خوش کرنا۔ بَسُطَ ـ بَساطَةً: بسیط ہونا، دراز ہونا، پر مزاح ہونا۔ بَاسَطَہ: سے خوش روئی وخندہ پیشانی سے بات کرنا۔ تَبَسَّطَ: گھومنا، سیر وتفریح کرنا۔ انبسط: پھیلنا، خوش ہونا، گھومنا، سیر وتفریح کرنا۔ البَسِيط جمع بُسَطاء: پُر مذاق۔ بسيطُ الوجه: کشادہ رو، ہنس مکھ۔

۲۔ بَسَطَ ـ بَسْطًا الرجلَ: کا دل بڑھانا۔ تَبَسَّطَ و انبسط: جرأت کرنا، بے تکلف ہونا۔

۳۔ بَسَطَ ـ بَسْطًا فلانًا عليه: کو پر فضیلت دینا۔ ـ العذرَ: عذر ظاہر کرنا یا قبول کرنا۔

۴۔ بَسَطَ ـ بَسْطًا اليدَ: ہاتھ پھیلانا۔ ـ السيفَ: تلوار سونتنا۔ ـ المكانُ القومَ: جگہ کا لوگوں کا اپنے اندر سمانا۔ تَبَسَّطَ و اِنْبَسَطَ: پھیلنا، دراز ہونا۔ ـ و بَسَّطَ الثوبَ: کپڑا پھیلانا۔ يدٌ بَسْطٌ و بُسُطٌ: کھلا ہوا ہاتھ۔ البَسِيط جمع بُسَطاء: وسیع وعریض زمین، پھیلا ہوا، دراز، کھلا۔ (بسيطُ اليَدَين: سخی، فیاض۔ بسيطُ القلب: سادہ لوح) سطح جیسے: بسيط اُسْطُوانی: بیلن کی سطح۔ البَساط: چوڑی زمین، کشادہ زمین۔ البِساط جمع بُسُط: بچھونا، فرش۔ الباسِط: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک، بمعنی رزق میں کشادگی کرنے والا۔ الباسِطة: دور کی مسافت۔ البَسِيطة: زمین، سطح زمین۔ البَسْطَة: وسعت۔ کہا جاتا ہے: زادَہ بسطةً فی العلمِ و الجسمِ: وہ علم کی وسعت اور جسم کی طوالت اور کمال میں بڑھ گیا۔ بَسْطَةُ العيش: زندگی کی فراخی۔

۵۔ بَسَطَ ـ بَسْطًا العمليات الجبرية من ضرب و جمع و غيرها: ضرب جمع وغیرہ کے جبری عمل کو مکمل کرنا اور اس کی مقداریں مختصر کرنا۔ البسيط: مفرد (غیر مرکب)، شعر کی ایک بحر جس کا وزن: مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ ہے۔

٦۔ البَسْطُرْمَا: وہ گوشت جو لمبے لمبے ٹکڑوں میں کاٹ کر سکھایا گیا ہو (ترکی لفظ)۔

○ بَسَطَ ـ بَسْطًا ہ: کو پھیلانا، ہموار کرنا، چپٹا کرنا، بڑھانا، لمبا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا، کھولنا، عطا کرنا، پیش کرنا۔ ـ ہ ل/علی: کی سے وضاحت کرنا، کو سے بیان کرنا، کو کی خدمت میں پیش کرنا۔ ـ ہ: کو کوڑے مارنا۔ بیت لگانا، کو خوش کرنا، محظوظ کرنا۔ بسط ذراعيه: اپنے بازو پھیلانا۔ بَسَطَ يَدَ المُساعَدَةِ لِ: کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانا۔ بَسَطَ المائدةَ: دستر خوان لگانا، میز پر کھانا لگانا۔ بَسُطَ ـ بَساطَةً: سادہ ہونا، مخلص ہونا، مہربان ہونا، صاف دل ہونا، راستباز ہونا، ایماندار ہونا، صاف باطن ہونا، صاف گو ہونا۔ بَسَّطَ ہ: کو پھیلانا، لمبا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا، ہموار کرنا، چپٹا کرنا، کو سادہ کرنا، آسان بنا دینا۔ بَاسَطَ: واضح کرنا، بیان کرنا، پیش کرنا یا تفصیل سے سمجھانا۔ ـ ہ ب: کے ساتھ کے بارے میں یا میں مخلص ہونا، سے کا صاف صاف اعتراف کرنا۔ تَبَسَّطَ: پھیلنا، کھلا ہونا، لمبا ہونا، بڑا ہونا، وسیع ہونا۔ ـ فی: کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا، کو بڑا کرنا، (کسی موضوع) کو تفصیل سے پیش کرنا، (کسی موضوع) پر مکمل شرح سے کچھ کہنا، لکھنا یا اسے پیش کرنا۔ تَبَسَّطَ: دوستانہ یا بامروت ہونا، بے تکلفی سے باتیں کرنے والا ہونا، ملنسار ہونا، یار باش ہونا، بے تکلفانہ سلیقہ برتنا، مکمل آرام سے ہونا۔ تَبَسَّطَ فی الحديث: آزادانہ گفتگو کرنا، کسی تکلف کے بغیر بات کرنا۔ اِنْبَسَطَ: پھیلنا، لمبا ہونا، بڑا ہونا، وسیع ہونا، خوش ہونا، خوش ہو جانا، مسرور ہونا۔ بَسْط: وسعت پھیلاؤ، کھلا ہونا، پیش کش، توسیع بیان، توضیح، تشریح، خوش ہونا، حظ، لطف، مزا، تفریح، کھیل، کسر میں خط کے اوپر کا عدد۔ بسط اليد: لالچ، حرص طمع۔ بَسْطَة: وسعت، پھیلاؤ، توسیع، پہاڑی وسیع علاقہ، لمبائی، حد، حجم، ضخامت، جسامت، مہارت، قابلیت، اہلیت، ضرورت سے زیادہ، کثرت، افراط، فراوانی بہتات۔ جمع بَسَطات: بیان، تشریح، پیش کش (جمع بساط) (سیڑھی کی) منزل (landing)، چبوترا، شہ نشین، تخت، منبر، پلیٹ فارم۔ بِساط جمع بَساطات أَبْسِطَة و بُسُط: قالین، غالیچہ، نمدہ، موٹا کمبل۔ بِساطُ الرحمةِ: کفن۔ طَرَحَ (وَضَعَ) مسألةً علی بِساطِ البحث (علی بساط المناقشة): زیر بحث مسئلہ کو بحث کے لئے اٹھانا، مسئلہ کو بحث کے لئے پیش کرنا۔ طوى البساط بما فيه: معاملہ ختم کرنا، معاملہ کو ہمیشہ کے لئے طے کرنا۔ بَسِيط جمع بُسَطاء: سادہ، صاف، واضح، غیر پیچیدہ، تھوڑا، سیدھا سادھا، معمولی، نا قابل لحاظ، نا قابل غور، خفیف، ادنی، چھوٹا، سطحی، ادنی سا، ذرا سا، ایک شعری بحر کا نام جمع بُسَطاء: سادہ روحیں، سیدھے سادھے لوگ، صاف گو لوگ۔ بَسِيطُ اليدين جمع بُسُطُ اليدين: سخی، فیاض۔ البسيطة: زمین، دنیا۔ بَسائِط: عناصر، سادہ علاج طبی پودے، بنیادی حقائق۔ بَساطة: سادگی، ہمواری، یکسانیت، وضاحت، سچائی۔ اُبْسُوطة جمع أباسيط: پہیے کا بیرونی حلقہ، رم rim۔ أَبْسَط: زیادہ سادہ، زیادہ چوڑا، زیادہ لمبا چوڑا، یا کشادہ یا فراخ، یا بڑے رقبہ کا یا زیادہ پھیلا ہوا۔ انبساط (واحد انبساطة): کشادگی، فراخی، پھیلاؤ، وسعت، وسیع رقبہ، خوشی، سرور، چہل، دل لگی، خوش طبعی، شگفتہ مزاجی شادمانی، خوش مزاجی، زندہ دلی۔ عضلة باسِطة: جسم کے کسی حصہ کو پھیلانے یا سیدھا کرنے میں ممد پٹھا۔ مَبْسُوط: پھیلا ہوا، توسیع دیا ہوا، لمبا چوڑا، کشادہ، فراخ، دور تک پھیلا ہوا، بڑا، کافی بڑا، مفصل، خوش، اچھی صحت والا، خوش حال، آسودہ حال۔ مُنْبَسِط: پھیلا ہوا، خوش، شاداں، مسرور، ہموار سطح۔

○ البسفور: باسفورس (جزیرہ)

بسق: ۱۔ بَسَقَ ـ بَسْقًا: بمعنی بصق (تھوکنا)۔

۲۔ بَسَقَ ـ بُسُوقًا النخلُ: کھجور کے درخت کا لمبے تنے اور لمبی ٹہنیوں والا ہونا صفت: باسِق۔ ـ أصحابَہ و علی أصحابه: اپنے ساتھیوں پر فضیلت میں برتر ہونا۔ بَسَّقَہ: کو لمبا کرنا۔ تَبَسَّقَ: لمبا ہونا۔

۳۔ الباسِقة جمع بَواسِق: مصیبت، صاف رنگ کا سفید بادل۔ بَواسِقُ السحاب: پہلے آنے والے بادل۔

○ بَسَقَ ـ بُسُوقًا: اونچا ہونا، بلند ہونا، لمبا ہونا، سر بفلک ہونا۔ ـ ہ/علی: پر فائق ہونا، سے بڑھ جانا، سبقت لیجانا، بازی لیجانا، پر شرف، فضیلت یا فوقیت رکھنا۔ باسِق: بلند، اونچا، سر بفلک۔ مُبْسِق:

بلند، اونچا، سر بفلک۔

○ بِسْكِلِيت: بائی سائیکل (فرانسیسی لفظ)۔

○ بِسْكُوت: بسکٹ (اٹلی زبان کا لفظ)۔

○ بِسْكُوِيت: بسکٹ۔

بسك: ۱- البِسْكُوتِي: خشک روٹی، فوجی اور ملاحوں کے لئے بسکٹ۔

۲- البِسِيكُولُوجِيَا: نفسیات Psychology۔ علم نفس یا علم فلسفہ عقلیہ (یونانی لفظ)۔ السِيكُولُوجِيا: بمعنی بالا۔

بسل: ۱- بَسَلَ ـُ بُسُولاً الرجلُ: غصہ یا بہادری سے تیوری چڑھانا صفت بَسْل و بَسِيل۔ بَسُلَ ـُ بَسَالاً و بَسَالَةً: بہادر ہونا صفت بَسُول و بَاسِل جمع بُسْل و بُسَلاء و بُسْل بَسْل و اِبْتَسَلَ نفسَهُ للموت: اپنے آپ کو موت کے لئے پیش کرنا، تیار کرنا۔ أَبْسَلَ نفسَه للموت: اپنے آپ کو موت کے لئے تیار کرنا۔ ـــ ہٗ: کو ہلاکت کے سپرد کرنا۔ ـــ ہٗ لكذا: کو کے لئے پیش کرنا۔ بَاسَلَ ہٗ: پر لڑائی میں حملہ کرنا۔ تَبَسَّلَ: غصہ یا بہادری سے تیوری چڑھانا، ترش رو ہونا۔ اِسْتَبْسَلَ: مرنے یا مارنے کے لئے لڑائی میں گھس جانا۔ البَسَالَةُ: شجاعت، بہادری۔ البَاسِل جمع بَوَاسِل: شیر۔ کہا جاتا ہے: يومٌ باسِلٌ و غضبٌ باسِلٌ: سخت دن اور سخت غصہ۔

۲- بَسَلَ ـُ بُسُولاً النبيذُ: نبیذ کا تیز ہو جانا۔ البَسْل: تخی۔ البَسِيل: برتن میں باقی رہ جانے والی نبیذ۔

۳- بَسَلَ ـُ بُسُولاً اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہو جانا۔

۴- بَسَلَهُ ـُ بَسْلاً: کو ملامت کرنا۔

۵- بَسَلَهُ ـُ بَسْلاً عن حاجته: کو اس کی حاجت سے منع کرنا، روکنا، کو حلال ٹھہرانا، جائز قرار دینا (ضد) أَبْسَلَ اللهُ الشيءَ: اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ البَسْل: حلال۔ حرام (ضد)۔ (اس میں واحد، جمع مذکر و مونث یکساں ہیں)۔ کہا جاتا ہے: هذا بَسْلٌ عليك: یہ تم پر حرام ہے۔ کہا جاتا ہے: بَسْلاً لَهُ: اس کے لئے خرابی ہو۔ البَسِيل: حرام۔

۶- بَسَّلَهُ: کو متنفر کرنا۔ البَسِيل: بدشکل۔ البَسَالَة: کراہت، نفرت۔

۷- أَبْسَلَ ہٗ: کو رہن رکھنا۔

۸- البِسِلّى (ن): ایک قسم کی بوٹی۔

○ بَسُلَ ـُ بَسَالَةً: نڈر ہونا، بہادر ہونا، بے خوف ہونا، دلیر ہونا۔ تَبَسَّلَ: تیز تیز نظروں سے دیکھنا، قہر آلود نگاہیں ڈالنا، گھورنا، کڑے تیوروں سے دیکھنا۔ اِسْتَبْسَلَ: بے احتیاط ہونا، عاقبت نا اندیش ہونا، لا پرواہ ہونا، موت کو للکارنا، موت کو خاطر میں نہ لانا۔ بَسَالَةٌ: جرأت، بے خوفی، دلیری۔ استبسال: موت کو دعوت۔ بَاسِل جمع بُسَلاء و بَوَاسِل: بہادر، نڈر، دلیر۔ مُسْتَبْسِل: موت کو دعوت دینے والا، موت کو للکارنے والا۔

○ بِسِلَّة: مٹر۔

بسم: ۱- بَسَمَ ـِ بَسْماً و تَبَسَّمَ و اِبْتَسَمَ: مسکرانا۔ صفت: بَاسِم و مُبْتَسِم۔ المَبْسِم جمع مَبَاسِم: دانت، منہ۔ البَسَّام و المِبسام: بہت مسکرانے والا۔

۲- بَسْمَلَ: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہنا۔ البَسْمَلَة (عند النصاری): بسم الآب والابن وروح القدس: باپ بیٹے اور روح القدس کے نام کے ساتھ عند المسلمین: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم: اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

○ مَبْسِم جمع مَبَاسِم: منہ، دہن، مکھ، دہانہ، مہنال (سگار یا سگریٹ) ہولڈر۔

○ بَسَمَ ـِ بَسْماً و تَبَسَّمَ و اِبْتَسَمَ: مسکرانا۔ بَسْمَة جمع بَسَمَات: مسکراہٹ۔ بَسَّام: مسکرانے والا۔ ابتسام و ابتسامہ جمع ابتسامات: مسکراہٹ۔

بسن: أَبْسَنَ: خوش ہیئت خوش شکل و خوش وضع ہونا۔

○ بُسَيْنَة: بلی کے بچے کا پیار کا نام۔

○ بِسِيكُولُوجِي: نفسیاتی۔

بش: ۱- بَشَّ ـَ بَشّاً و بَشَاشَةً: ہنس مکھ ہونا، خندہ پیشانی ہونا۔ ـــ للشيءِ: کو دیکھ کر فرحاں و شاداں ہونا۔ ـــ بالصديق: دوست کو دیکھ کر خوش ہونا صفت: بَشّ و بَاشّ و بَشُوش و بَشَّاش۔ أَبَشَّتِ الأرضُ: نباتات کا کسی زمین میں شاخ در شاخ اور گنجان ہونا، آپس میں گتھ جانا۔

۲- بَشْبَشَ الرجلُ: خوشی و مسرت کا اظہار کرنا۔ تَبَشْبَشَ بِه: سے خندہ پیشانی سے ملنا۔

○ بَشَّ ـَ بَشّاً و بَشَاشَةً: دوستانہ خوشگوار اور خوش انداز کا مظاہرہ کرنا، مسکرانا۔ ـــ لِ: سے دوستی کا برتاؤ کرنا، کو دیکھ کر متبسم ہونا۔ بَشُوش و بَشَّاش: متبسم، مسکرانے والا، دوستانہ، خوش باش، شادمان۔ بَشَاشَة: مسکراہٹ، خوش انداز۔ بَاشّ: مسکرانے والا، مسکراتا ہوا، دوستانہ، مہربان۔

بشت: البُشْتُخْتَة: صندوقچی (ترکی لفظ)۔

○ بُشْت: عبا، ایک قسم کا لبادہ یا چوغہ۔

○ بُشْتَة: مصری کسانوں کا اونی لبادہ۔

بشر: ۱- بَشَرَ ـُ بَشْراً الجلدَ: کھال چھیلنا۔ ـــ الشارِبَ: مونچھ مونڈ کر کھال ظاہر کرنا۔ ـــ الجرادُ الأرضَ: ٹڈی کا زمین کی ساری روئیدگی کو چٹ کر جانا۔ أَبْشَرَ الشيءَ: کو چھیلنا۔ البَشَرَة جمع بَشَر: کھال کا اوپر کا رخ۔ البُشَارَة: اترا ہوا چھڑہ۔ المِبْشَرَة: چھیلنے کا آلہ، عام لوگ اسے مبرشہ کہتے ہیں۔

۲- بَشَرَ ـُ بَشْراً الأمرَ: کام پر توجہ دینا، کام سنبھالنا، کام کو ہاتھ میں لینا۔ بَاشَرَ الأمرَ: کو خود سنبھالنا۔

۳- بَشَرَ ـُ و بَشِرَ ـَ و أَبْشَرَ و اِسْتَبْشَرَ بِه: سے خوش ہونا۔ کہا جاتا ہے: بَشَرَنِي بوجهٍ حَسَنٍ: مجھ سے خندہ پیشانی سے ملا۔ بَشَّرَہٗ: کو خوش کرنا، خوش خبری سنانا۔ أَبْشَرَ فلاناً: کو خوش خبری سنانا۔ ـــ الأمرُ وجهَهُ: کام کا چہرے کو حسین اور پر رونق بنا دینا۔ بَاشَرَہٗ النعيمُ: پر نعمتوں کا ٹوٹ پڑنا اور امنڈ آنا۔ تَبَاشَرُوا بالأمرِ: ایک دوسرے کو کسی امر کی خوش خبری دینا۔ البِشْر: خندہ پیشانی، کشادہ روئی۔ البَشِير جمع بُشَراء: خوشخبری دینے والا۔ البُشْرَى جمع بُشْرَيَات او البِشَارَة جمع بِشَارَات و بَشَائِر: خوش خبری۔ بِشارة الانجيل: بیان کا اضافہ ہے کیونکہ یونانی میں انجیل کا معنی ہی بشارت ہے۔ البَشَارَة جمع بشائر: حسن و جمال۔ کہا جاتا ہے: بشائرُ الوجه: چہرے کے سنگار کا سامان غازہ (گلگونہ)۔ بشائرُ الصبح: آغاز صبح۔ البُشَارَة: خوش خبری دینے والے کو دیا جانے والا عطیہ۔ التباشير: خوش خبری، ہر شے کی ابتداء۔ تباشير الصبح: صبح کی پہلی جھلک۔

۴- أَبْشَرَتِ الأرضُ: زمین کا اگانا۔ البَشَرَة جمع بَشَر: گھاس پات، سبزی ترکاری، جڑی بوٹیاں۔

۵- بَاشَرَ المرأةَ: عورت سے مباشرت کرنا۔

۶- البَشَر: انسان (مذکر، مونث واحد جمع) ابو البشر: آدم علیہ السلام کی کنیت۔ ابن البشر: حضرت مسیح علیہ السلام کا لقب (نصاریٰ کے ہاں)۔

○ بَشَرَ ـُ و بَشِرَ ـَ بِ: پر خوش ہونا، محظوظ ہونا، مسرور ہونا۔ بَشَّرَہٗ بِ: کو کی خوشخبری دینا۔ ـــ بِ: کو پھیلانا، کی اشاعت کرنا، کی تلقین کرنا، نصیحت کرنا، پر وعظ کہنا، کو ذہن نشین کرنا، کی دعوت دینا، تبلیغ

کرنا۔ بَشَّرَ نفسَه ب: اس خوش امیدی میں مشغول ہونا کہ، جائز یا روا رکھنا کہ۔ اَبْشَرَ: خوش خبری پر خوش ہونا۔ اِستَبشَرَ ب: پر خوش ہونا، مسرور ہونا، محظوظ ہونا، کو خوش آمدید کہنا، کو اچھا شگون خیال کرنا۔ اِستَبشَرَ به خیراً: کو مبارک و مسعود سمجھنا۔ بِشْر: فرحت، خوشی، مسرت، شادمانی، طرب، سرور، انبساط، باعث انبساط، مایہ شادمانی۔ بُشر: خوش خبری۔ بُشْریٰ: خوشخبری، نوید مسرت، مژدہ۔ بِشارۃ جمع بِشارات و بَشائر: خوش خبری، نوید مسرت، شہرت، اعلان، پیشین گوئی، مسلک، عقیدہ ایمان، شریعت عیسیٰ علیہ السلام۔ بشائر: اچھی فالیں، اچھے شگون، مبارک و مسعود شگون یا اشارے۔ عیدُ البِشارۃ: بشارت، تبشیر، حضرت مریم کا تہوار۔ بَشیر جمع بُشَراء: خوش خبری یا نوید مسرت لانے والا، پیغامبر، منادی، آمد آمد کی خبر دینے والا، نقیب، پیش خیمہ، پیش رو، مستقبل کی نشاندہی کرنے والی چیز، انجیل نویس، انجیل آموز۔ تبشیر: خوشخبری یا نوید مسرت کا اعلان، انجیل کی تلقین یا دعوت، تبلیغ انجیل، تبلیغی سرگرمی۔ تبشیری: تبلیغی، تبلیغی ادارے کا۔ تَباشیر: آنے والے واقعہ کی طرف اشارے، پیش خیمے، پیش بینی، پیشگی خبر دینے والی علامات، شگون، پہلی علامات، نقباء، پیش رو، پیام رساں، آغاز، شروعات۔ تباشیر الفجر: فجر کی پہلی جھلک، نور کے تڑکے کی پہلی ٹمٹماتی یا جھلکیں۔ مُبَشِّر جمع مُبَشِّرون: اعلان کنندہ، پیام رساں (نوید مسرت کا)، انجیل نویس، مبلغ، واعظ، تبلیغی جماعت کا فرد۔ مُستَبشِر: خوش، شادمان، شاد۔

۲- بَشَرَ بَشْراً ہ: کو چھیلنا، کا چھلکا اتارنا، کو مقشر کرنا، کی کھال کھینچنا، کو مونڈنا، کھرچنا، رگڑ کر صاف کرنا، رگڑنا، گھسنا، کو کدوکش پر چھیلنا، پرزے پرزے کرنا، کی دھجیاں اڑانا۔ باشَرَ ہ: کو چھونا، کے ساتھ براہ راست رابطہ میں ہونا۔ ــــ ہ: کے ساتھ جنسی راہ و رسم رکھنا، سے مباشرت کرنا، جماع کرنا۔ ــــ ہ/ب: پر توجہ دینا، پر محنت کرنا، کی دھن میں لگے رہنا، پر کامل توجہ کرنا، کو ہاتھ میں لینا، کو کرتے رہنا، میں لگے رہنا، کو حاصل کرنے کے لئے جد و جہد کرنا، کو بجا لانا۔ بَشَر: انسان، لوگ، نوع انسانی، نسل انسانی، سب انسان۔ بَشَری: انسانی، جلدی، کھال کا۔ طبیب بشری: امراض جلد کا طبیب، ساخت جلد کا ماہر۔ بَشَرۃ: بیرونی جلد، اوپری جلد یا کھال، جلد کا اوپر کا پرت، چھال، پوست، چمڑا، بالائی جلد، جلد، کھال، چہرہ، رنگ روپ، صورت، جسم یا چہرے کا رنگ۔ بَشَریّۃ: نوع انسانی، نسل انسانی۔ مِبشَرۃ جمع مَباشِر: کھرچنے یا چھیلنے کا اوزار، کدوکش۔ مُباشَرۃ: مشغلہ، کسی چیز کے حصول کی کوشش، عملی کام، براہ راست طبیعی سبب، علت یا باعث۔ مُباشَرۃً: فوراً، بلا تاخیر، براہ راست، فی الفور۔ مَبشور: جُبنۃٌ مَبشورۃٌ: ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا پنیر۔ مُباشِر جمع مُباشِرون: براہ راست، فوری، پریکٹیشنر Practioner، درپے ہونے والا، مشین چلانے والا، منتظم، ناظم، کارندہ، کارکن، کارپرداز، کرتا دھرتا، صاحب عدالت، دربان عدالت، سٹاف سارجنٹ staff sargeant۔ غیرُ مُباشِر: بتوسط، بہ واسطہ، ضمنی، ذیلی، بالواسطہ۔ اصاباتٌ مُباشِرۃ: براہ راست ضربیں۔

○ بَشرُوس: لال لم ڈھینگ flamingo۔

بشع: ۱- بَشِعَ - بَشَعاً و بَشاعۃً الشیءُ والمرءُ: چیز کا بدمزہ اور مرد کا بدشکل ہونا۔ تَبَشَّعَ: چیز کا بدمزہ اور مرد کا بدشکل ہونا، بدمزگی ظاہر کرنا۔ اِستَبشَعَ: کو بےمزہ یا بدشکل پانا یا سمجھنا۔

۲- بَشِعَ - فلانٌ بالامر: سے ضیق و تنگی میں ہونا۔ بَشِع و بشیع: بدمزہ (چیز) بدشکل آدمی۔

○ بَشُعَ - بَشاعۃً: بدشکل ہونا، قابل نفرت ہونا۔ بَشَّعَ ہ: کو بدشکل کرنا، کی شکل بگاڑنا، کی صورت بگاڑنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کی تحقیر کرنا، کو گھنا کر دکھانا، کی برائیاں کرنا۔ اِستَبشَعَ ہ: کو بدشکل سمجھنا، کو بدشکل یا سخت ناپسند پانا۔ بَشِع و بَشیع: بدشکل، بدصورت، خراب، ناپسندیدہ، ناگوار، نفرت انگیز، مکروہ، سخت ناپسند، ناخوش گوار۔ بُشاعۃ: بدصورتی، بھونڈا پن۔ أبشَع: کہ زیادہ بدصورت، گھناؤنا، مکروہ، تنفر آفریں یا سرد مہری کا یا بے رخی کا۔

بشق: بَشَقَ - و بَشِقَ - بَشْقاً ہ بالعصاء: کو لاٹھی سے مارنا۔ الباشَق جمع بَواشِق (ح): ایک چھوٹا شکاری پرندہ۔

بشك: بَشَكَ - بَشْكاً: جلدی کرنا۔ ــــ الثوبَ: کپڑے میں دور دور ٹانکے لگانا۔ ــــ فی عمله: کام بگاڑنا۔ ــــ الخبرَ: خبر گھڑنا۔ اِبتَشَكَ: جھوٹ بولنا۔ ــــ الکلامَ: بات گھڑ لینا۔ البَشّاك: بڑا جھوٹا۔

○ اِبتَشَكَ: جھوٹ بولنا، حیلہ بہانہ کرنا، ہیر پھیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، مطلب کی بات اڑا جانا، پہلو دار باتیں کرنا۔ بَشّاك: جھوٹا۔ ابتشاك: جھوٹ، دھوکا، فریب، دغا۔

○ بَشْکُور جمع بَشاکیر: آگ کریدنی۔

○ بَشْکیر جمع بَشاکیر: تولیہ، صافی۔

○ بَشْلَۃ جمع بشلات: جرثومہ جمع جراثیم۔

بشم: بَشِمَ - بَشَماً من الشیء: سے اکتا جانا صفت: بَشِم ــ من الطعام: کھانے سے بدہضمی ہونا۔ أبشَمَہُ الطعامُ: خوراک کا کسی میں بدہضمی پیدا کرنا۔ البَشام واحد بَشامۃ (ن): ایک خوشبودار درخت جس کی لکڑی سے خلال بنایا جاتا ہے اور پتوں سے بال کالے کئے جاتے ہیں، دوا فروش اسے حب البلسان کہتے ہیں۔

○ بَشِمَ - بَشَماً من: سے گھن آنا، جی متلانا، تنفر ہونا، اکتا جانا۔ أبشَمَ ہ: کا جی متلانا، کو بیمار کرنا، بیزار کرنا، میں نفرت پیدا کرنا۔ بَشَم: پرخوری، جی بھرا ہونا، بہت زیادہ شکم سیری، نفرت، تنفر، کراہت۔

○ بَشْمار: زری وغیرہ کا کام، گوٹ، لیس، فیتہ، کناری وغیرہ۔ بَشامِری: زری کا کام کرنے والا، گوٹ، لیس، فیتہ، کنارا، وغیرہ بنانے والا۔

بَشْمَق: سلیپر (فقہاء اور عورتوں کے)

○ بَشْنَۃ: باجرہ، کنگنی، کاکن، سانواں، جوار۔

○ بَشْنَس: قدیم مصری تقویم کا نواں مہینہ۔

○ بَشْنُوقۃ جمع بَشانیق: رومال جو ٹھوڑی کے نیچے باندھا جاتا ہے۔

○ بَشْنین: کنول۔

بصّ: ۱- بَصَّ - بَصیصاً و بَصّاً: چمکنا، جگمگانا۔ بَصَّصَ الجروُ: پلے کا آنکھیں کھولنا۔ ــــ ت الارضُ: زمین کی پہلی روئیدگی اُگنا۔ ــ الشجرۃُ: درخت کی کونپل نکلنا۔ البَصیص: چمک دمک۔ البَصّاصۃ: آنکھ۔

۲- بَصَّ - بَصیصاً و بَصّاً الماءُ: پانی کا رسنا۔ ــــ لی بِیَسیرٍ: اس نے مجھے تھوڑا دیا۔

۳- بَصبَصَ بَصبَصۃً: بمعنی بَصَّصَ۔ ــ فلانٌ: چاپلوسی کرنا۔ ــــ الکلبُ: کتے کا دم ہلانا۔ تَبَصبَصَ الکلبُ: کتے کا دم ہلانا۔

○ بَصَّ - بَصّاً و بَصیصاً: چمکنا، دمکنا، دہکنا۔ بَصّۃ: انگارے۔ بصیص: چمک، دمک، جھلک، (امید کی) کرن، چمک دار، تابندہ، درخشاں۔ بَصّاص: چمک دار تابندہ، درخشاں، جاسوس، سراغ رساں۔

○ بَصبَص بَصبَصۃً بِذَنَبِهِ: دم ہلانا، کسی کو پیار بھری

نظروں سے دیکھنا، محبت بھری نظروں سے دیکھنا۔

بصر ۱۔ بَصُرَ ـ و بَصِرَ ـ بَصَرًا و بَصَارَةً: کو دیکھنا۔ بَصَّرَ الجروُ: پلے کا آنکھیں کھولنا۔ أَبْصَرَهُ: کو دیکھنا، کو بینا کرنا۔ بَاصَرَ الشيءَ: کو دور سے جھانک کر دیکھنا۔ تَبَصَّرَ الشيءَ: کی طرف بغور دیکھنا۔ — في الشيء: میں سوچ بچار کرنا، غور کرنا۔ تَبَاصَرُوا: کسی چیز کو پہلے دیکھنے میں مقابلہ کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا۔ إِسْتَبْصَرَ الأمرَ: کو اچھی طرح دیکھنا۔ — فيه: پر سوچ بچار کرنا، غور وخوض کرنا۔ البَصَر جمع أَبْصَار: قوت بصارت، آنکھ۔ (کہا جاتا ہے: أَتَيْتُهُ بين سمع الارض و بصرها: میں اس سے ایسے تنہا مقام پر ملا کہ صرف زمین ہی میری بات سنتی اور مجھ کو دیکھتی تھی)۔ الباصِرَة جمع بَوَاصِر: آنکھ۔ کہتے ہیں: خير العشاء بواصِرُهُ: بہتر کھانا وہ ہے جو تاریکی سے پہلے کھایا جائے۔ المُبَصِّر: نگہبان۔ کہا جاتا ہے: رَتَّبتُ علي بستاني مُبَصِّرًا: میں نے اپنے باغ کے لئے ایک نگہبان مقرر کیا۔

۲۔ بَصُرَ ـ و بَصِرَ ـ بَصَرًا و بَصَارَةً و به: کسی چیز کو جاننا۔ بَصَّرَهُ الامرَ: کو کوئی بات بتانا۔ — له: کو اس کی قسمت بتانا۔ البَصَر جمع أَبْصَار: علم۔ عِلْمُ البَصَرِيَّات (ف): نور کے قوانین، بصریات، علم بصارت۔ البَصِيرَة جمع بَصَائِر: عقل، زیرکی، عبرت۔ المُبَصِّر: قسمت دیکھنے والا۔ البَصَّارَة: قسمت دیکھنے والا۔ التَّبَصِير: قسمت دیکھنا۔

۳۔ بَصَرَ ـ بَصْرًا الشيءَ: کو کاٹنا۔

۴۔ أَبْصَرَ الطريقُ: راستہ کا ظاہر و واضح ہونا۔ إِسْتَبْصَرَ الأمرُ: ظاہر و آشکارا ہونا۔ — الامرَ: کو ظاہر و آشکارا کرنا۔ البَصِيرَة جمع بَصَائِر: حجت، شاہد۔ کہا جاتا ہے: جَوَارِحه بصيرة عليه: اس کے اعضا اس کے خلاف گواہ ہیں۔ فِرَاسَةٌ ذات بصيرة: سچی فراست۔ المَبْصَر و المَبْصَرَة: واضح اور کھلی دلیل۔

۵۔ أَبْصَرَ الرجلُ: آدمی کا بصرہ میں آنا۔ بَصَّرَ: بصرہ میں آنا۔ البَصْرَة: نہر فرات اور دجلہ کے دوآبے کے مغربی کنارہ پر ایک شہر کا نام ہے۔ البصرتان: کوفہ و بصرہ۔ — جمع بِصَار (ط ا): سخت و کرخت زمین، پتھریدار اور لیس دار زمین۔

○ بَصُرَ ـ و بَصِرَ ـ بَصَرًا: دیکھنا۔ — ب: کا ادراک کرنا، کو سمجھنا۔ بَصَّرَهُ/ب: کو کوئی چیز دکھانا، سمجھانا، حاصل کروانا، کو سے آگاہ کرنا، کو پر یا کے بارے میں روشن خیالی عطا کرنا، کو کے بارے میں مطلع کرنا، کو کی اطلاع دینا۔ أَبْصَرَهُ/ب: کو دیکھنا، سمجھنا، کو دور سے دیکھ کر اندازہ لگانا، کو بصارت یا بصیرت سے صاف صاف دیکھ لینا، بھانپ لینا، پہچان لینا، دیکھ لینا، پہچان لینا۔ — في: کو بغور سوچنا۔ — ب: پر غور و فکر کرنا۔ تَبَصَّرَهُ: کی طرف دیکھنا، کو بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ — في: پر غور کرنا، غور و فکر کرنا۔ إِسْتَبْصَرَ: مرئی ادراک کی حس یا صلاحیت کا حامل ہونا، دیکھنے کی قابلیت رکھنا، سمجھ کی ودیعت والا، معقول ہونا، عاقل ہونا، ذہین ہونا سمجھ دار ہونا۔ — في: پر غور و خوض کرنا، پر غور کرنا۔ بَصَر جمع أَبْصَار: تصور، فراست، دوراندیشی، نظر، بصارت، سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر، دقت نظر، بصیرت، ادراک، شناخت، فہم، نکتہ رسی۔ قَصِيرُ البَصَر: جس کی دور کی نظر کمزور ہو۔ لَمحُ البَصَر: سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر۔ في لمح البصر، كلمح البصر، دون لمح البصر، في اقل من لمح البصر: پلک جھپکنے میں، ایک لحہ میں، چشم زدن میں، في الفور۔ علي مدى البصر: نظروں میں، جسے دیکھا جا سکے۔ لَه بَصَرٌ ب: وہ اس سے واقف ہے۔ بَصَرِي: بصری، مرئی، آنکھوں کا، آنکھوں کے متعلق۔ بَصَرِيَّات: بصریات، علم بصارت۔ بَصَارَة: ادراک، شناخت، فہم نکتہ رسی، بصیرت، فراست، ذہن کی تیزی، ذہانت، تیز فہمی۔ بَصِير جمع بُصَرَاء: آنکھوں والا، دیکھنے والا۔ — ب: سے پوری طرح واقف، میں پرکھ رکھنے والا، کا عالم، کو سمجھنے والا، میں ماہر، سے واقف۔ بَصِيرَة جمع بَصَائِر: بصیرت، دقت نظر، فہم، تیز فہمی، فراست، ادراک، شناخت، نکتہ رسی، ذہنی ادراک کی قوت، ذہنی تصور، فراست، دوراندیشی۔ عن بَصِيرَةٍ: جان بوجھ کر، دیدہ دانستہ۔ كان علي بصيرة من: کسی شئے کے بارے میں دقت نظر رکھنا، کے متعلق مطلع ہونا، آگاہ ہونا۔ نافِذُ البصيرة: صاحب فہم و بصیرت، صاحب ادراک، زکی، تیز فہم۔ نَفَاذُ البَصِيرَة: تیز ادراک، یا فہم، یا نکتہ رسی یا بصیرت، بصیرت، فراست۔ أَبْصَر: زیادہ صاحب فہم و بصیرت، زیادہ صاحب ادراک۔ تَبْصِرَة: روشن خیالی، اطلاع، احکام، ہدایات۔ تَبَصُّر: غور و خوض، تیز فہمی، فراست، ژرف نگاہی، بصیرت، تیز نگاہی۔ بَاصِرَة جمع بَوَاصِر: آنکھ۔

بصع ۱۔ بَصَعَهُ ـ بَصْعًا: کو جمع کرنا۔

۲۔ بَصَعَ ـ بَصْعًا الماءُ: پانی کا بہنا یا رسنا۔ البَصْع: تنگ سوراخ۔ البصيع جمع بُصُع: پسینہ۔

۳۔ البَصْع: انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی کے درمیان کا فاصلہ۔ البِصْع: رات کا ایک پہر۔ الأَبْصَع م بَصْعَاء جمع أَبْصَعُون و بُصَع: احمق۔ یہ لفظ تاکید کے لئے بھی آتا ہے۔ جیسے: اخذت حقي أجمع أَبْصَع: میں نے اپنا حق پورا پورا لے لیا۔ (أَبْصَع کو اجمع سے پہلے لانا جائز نہیں)۔

بصق: بَصَقَ ـ بَصْقًا: تھوکنا۔ البُصَاق: تھوک۔ باصقات اللّهب واحد باصقة: جنگی ہتھیار جو جلتا ہوا مائع پھینکتے ہیں جس سے جہاں وہ گرے آگ لگ جاتی ہے۔

○ مِبْصَقَة: پیک دان، اگالدان۔

بصل: بَصَّلَ و تَبَصَّلَ ہ من ثيابه: کے کپڑے اتارنا۔ تَبَصَّلَ القِشْرُ: چھلکے کا موٹا ہونا۔ البَصَل (ن): پیاز۔ البَصَلَة: ایک پیاز، گنٹھی، گانٹھ، لوہے کا خود۔ خرجوا كأنهم الأصل وعلي رؤوسهم البَصَل: وہ نکلے گویا کہ وہ ڈسنے والے سانپ ہیں، جن کے سروں پر لوہے کے خود رکھے ہیں۔ (اَصَل اصلة کی جمع ہے جو ایک زہریلے سانپ کا نام ہے۔ بصل الفأر: جنگلی پیاز، عوام اسے بُصَيْلَة کہتے ہیں۔

بصم: ۱۔ بَصَمَ ـ بَصْمًا القماشَ: کپڑے پر نشان لگانا۔ البُصْم: چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کا درمیانی فاصلہ۔ ثوبٌ ذو بُصْم: موٹا گف کپڑا۔ رجلٌ ذو بُصْم: موٹا آدمی۔

۲۔ البَصْما (ط): ایک قسم کی مٹھائی (ترکی لفظ)۔

○ بَصَمَ ـ بَصْمًا ہ: کو چھاپنا، پر نقش کا ٹھپا چھاپنا، ٹھپا لگانا، مہر لگانا، نشان چھاپنا۔ بَصْمَة جمع بَصَمَات: ٹھپا، مہر، نقش۔ بصمة الختم: ٹھاپ، شاپ کا نقش۔ بَصْمَةُ الأَصَابِع: انگلیوں کا نشان۔

بصا: بَصَا ـ بَصْوًا غريمَهُ: قرضدار سے سب کچھ لے لینا۔ البَصْوَة: چنگاری۔

بضّ: ۱۔ بَضَّ ـ بَضَاضَةً و بُضُوضَةً: موٹاپے کے ساتھ پتلی اور نرم کھال والا ہونا صفت: بَضّ و بَاضّ و بَضِيض مونث بَضَّة و بَاضَّة و بَضِيضَة۔

۲۔ بَضَّ ـ بَضًّا و بُضُوضًا و بَضِيضًا العينُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ ما تَبِضُّ عينُهُ

وہ مصیبت پر بہت صابر ہے۔ الماءُ: پانی کا تھوڑا تھوڑا بہنا۔ الحجرُ: پتھر سے پانی کا رسنا، بخیل کے بارے میں کہتے ہیں: فلانٌ ما یبضُّ حجرہ: بخل کے سبب سے فلاں شخص سے بھلائی نہیں مل سکتی۔ ۔ لہ: کو دینا۔ بَضَضًا و بضاضةً: تھوڑی سی چیز یا پانی دینا۔ اَبَضَّ لہ: کو تھوڑی سی چیز دینا۔ تَبَضَّضَ حقَّہُ من فلان: سے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا حق وصول کرنا۔ ۔ فلانًا: سے سب کچھ لے لینا۔ البَضُوض جمع بِضاض من الآبار: کم پانی والا کنواں۔ البَضِیضَة: پوری ملکیت۔ کہا جاتا ہے: اخرجتُ لہ بضیضتی: میں نے اپنی ساری پونجی اس کے پاس نکال کر رکھ دی۔

۳۔ بَضَّ ۔ اَوتارَ العُود (مو): سارنگی کے تاروں کو بجانے کے لئے حرکت دینا (چھیڑنا)۔ بَضْضَ تَبَضُّضًا: ناز و نعمت کی زندگی بسر کرنا۔ اِبْتَضَّ القومَ: قوم کو بالکل تباہ کر دینا۔

○ بَضَّق: نرم کھال والا۔

بضع: ۱۔ بَضَعَ ۔ بَضْعًا و بَضَّعَ الشیءَ فانبَضَعَ: چیز کو کاٹنا، نشتر سے چیرنا، چیز کا کٹ جانا اور نشتر سے چر جانا۔ الباضِع: کاٹنے والی تلوار۔ المِبْضَع جمع مَباضِع: کھال وغیرہ چیرنے کا آلہ، کھال پھاڑنے کا آلہ۔ البِضعَة و البَضعَة جمع بَضْع و بِضَع و بِضاع و بَضَعات: گوشت کا ٹکڑا۔

۲۔ بَضَعَ ۔ بُضُوعًا الکلامُ: کلام کا واضح ہونا۔ ۔ الکلامَ: کلام کو سمجھنا۔ اَبْضَعَہُ الکلام: کلام کو کسی کے لئے واضح کرنا۔

۳۔ اَبْضَعَ الشیءَ (ت): چیز کو سرمایہ، سامان تجارت (پونجی) بنانا۔ تَبَضَّعَ: پونجی لینا۔ ۔ الشیءَ: چیز کو پونجی (سامان تجارت) بنانا۔ اِسْتَبْضَعَ: سرمایہ لینا، سامان تجارت (پونجی) لینا۔ ۔ الرجلَ الشیءَ: کے لئے سرمایہ مہیا کرنا۔ الباضِع: سامان اٹھانے والا۔ البِضاعَة جمع بضائع: تجارت کے لئے تیار کیا ہوا مال یا سرمایہ، پونجی۔

۴۔ بَضَعَ ۔ بُضُوعًا فلانٌ: اکتا جانا، تنگ دل ہونا۔ تَبَضَّعَ العَرَقُ: پسینہ کا بالوں کی جڑوں سے تھوڑا تھوڑا بہنا۔ البِضع و البَضع: رات کا کچھ حصہ، تین سے نو تک کی تعداد۔ کہا جاتا ہے: بِضعُ سنین: کچھ سال، چند سال، کئی سال۔ بِضعَ عشرةَ من النساء: دسیوں عورتیں۔ بضعٌ و عشرون امراۃً: بیس اور کچھ عورتیں۔ مذکر کے ساتھ: بضعة عشر من الرجال اور بضعةٌ و عشرون رجلاً کہیں گے۔ لفظ بضع کو پہلے لانا ضروری و لازمی ہے۔ عشرون و بضع کہنا درست نہیں۔

○ بَضَعَ ۔ بَضْعًا ہ: کو کاٹنا، کاٹ ڈالنا، چاک کرنا؛ چیرنا، پھاڑنا، عمل تشریح کرنا، اعضاء کو علیحدہ کرنا، عضو کو کاٹ دینا۔ بَضَّعَ: تراشنا، چیرنا، پھاڑنا، پاک کرنا، اعضاء کو علیحدہ کرنا۔ باضَعَ ھا: عورت کے ساتھ ہم بستر ہونا۔ اَبْضَعَ ہ: سرمایہ لگانا۔ تَبَضَّعَ: تراشا جانا، چرنا، پھاڑا جانا، چاک ہونا، اعضاء کا علیحدہ کیا جانا، تجارت کرنا، خریداری کرنا۔ اِسْتَبْضَعَ: تجارت کرنا۔ بَضْع: قطع عضو، قطع و برید۔ بِضعة جمع بِضَع: (گوشت کا) ٹکڑا، گوشت۔ بُضْع: اندام نہانی۔ بِضاعَة جمع بَضائع: سامان، مال تجارت، تجارتی اشیاء، پیش کرنے کی چیز، دکھانے کی چیز، عطا کردہ خوبی، اوصاف، صفات، خوبیاں، کمالات۔ قِطارُ البضاعَة: مال گاڑی۔ اخرج ما عندہ من بضاعة: اس نے وہ وہ کچھ کہہ دیا جو کہنا چاہتا تھا۔ مِبْضَع جمع مَباضِع: چیر پھاڑ والا چاقو، نشتر۔ مُسْتَبْضِع: منیجر، کارپرداز، کار پرداز گماشتہ، کارندہ۔

بضم: بَضَمَ ۔ بَضْمًا الزرعُ: فصل کا موٹے اور سخت دانوں والا ہونا۔ البُضم: خوش نفس۔ کہا جاتا ہے ہو کریمُ البضم: وہ کریم النفس ہے۔

بط: ۱۔ بَطَّ ۔ بَطًّا الجرحَ: زخم کو چیرنا۔ المِبَطّ جمع مَباطّ و المِبَطَّة: نشتر، شگاف لگانے کا آلہ۔

۲۔ بَطَّطَ: عاجز ہونا، تھکنا۔ البَطّ جمع بُطُوط و بِطاط: واحد البَطَّة (مذکر و مونث دونوں کے لئے) (ح): بطخ۔ البَطَّة: بطخ کی شکل کی شیشی۔ تبطیط او تفلطح الارض (ع ف): زمین کے استوائی اور قطبی قطروں کے درمیان فرق، استوائی قطر پر تقسیم کے بعد یعنی ۲۹۷/۱ جب کہ مشتری کا اس قسم کا فرق ۱/۱۵ ہے۔

۳۔ بَطْبَطَ یُبَطْبِطُ البَطُّ: بط کا بولنا، پانی میں غوطہ لگانا۔ ۔ الرجلُ: کمزور رائے والا ہونا۔ البَطْباط (ن): ایک پودا جس کے پھول سفید رنگ کے یا گلابی رنگ کے ہوتے ہیں، عموماً اس کی بیل ٹٹی پر چڑھائی جاتی ہے، سدا بہار ہوتا ہے یا سال کے بعد پھول لگتے ہیں۔

۴۔ البَطاطَا (ن): آلو، اروی، رتالو۔

○ بَطّ واحد بَطَّة: بطخ، بط، مرغابی۔ بَطَّة: چرمی بوتل۔ بَطَّةُ الساق: پنڈلی۔

بطؤ: بَطُؤَ ۔ بُطْأً و بِطاءً و بُطُوءً و اَبْطَأَ: دیر کرنا [illegible] بَطَّأَ علیہ بالامر: کام کو موخر کرنا۔ باطَأَہُ: سے ٹال مٹول کرنا۔ تَباطَأَ و تَباطَأَ فی سیرہ: چلنے میں پیچھے رہنا، دیر لگانا۔ اِسْتَبْطَأَہُ: کو آہستہ پانا یا سمجھنا۔ المَبْطَأة: تاخیر کا باعث و سبب۔

○ بَطُؤَ ۔ بُطْأً و بِطاءً و بَطاءَةً: آہستہ ہونا، آہستہ رو ہونا، پیچھے رہنا، دیر لگانا، کاہلی کرنا، پس و پیش کرنا، ٹال کرنا، انتظار کرنا، ہچکچانا۔ بَطَّأَ علی ب: کو میں روکنا، باز رکھنا، آہستہ کرنا، کو تھامے رہنا، سنبھالے رہنا۔ اَبْطَأَ ہ: کو آہستہ کرنا، کی رفتار کم کرنا، روکے رکھنا، آہستہ ہونا، آہستہ چلنا یا آہستہ گاڑی چلانا۔ ۔ عن: کسی کام میں تاخیر کرنا، کسی کو لینے میں تاخیر کرنا، کو انتظار میں رکھنا۔ تَبَطَّأَ فی: میں آہستہ ہونا، سست ہونا۔ تَباطَأَ: آہستہ ہونا، آرام سے کام کرنا، آہستہ جانا، آہستہ ڈرائیو کرنا، آہستہ کام کرنا یا آہستہ یا آرام سے کوئی کام کرتا رہنا، آہستہ چلنا۔ اِسْتَبْطَأَ ہ/ہ: کو آہستہ، سست یا دھیما پانا۔ ۔ ہ: کے لئے طویل انتظار کرنا پڑنا، کا انتظار کرتا رہنا۔ بُطْء: آہستگی، سستی۔ بُطْءٌ: آہستہ، آرام سے، اطمینان سے۔ بَطِیء جمع بِطاء: آہستہ، آہستہ رو، آہستہ آہستہ قدم اٹھانے والا، سست، تاخیر کرنے والا، بے ہمت، مٹھا، دیر سے آنے والا، تدریجی، غیر محسوس، ناقابل ادراک۔ بَطِیءُ التردُّد: آہستہ فریکوئنسی والا at low frequency۔ اَبْطَأ: زیادہ آہستہ۔ اَبْطَأُ من غرابِ نُوحٍ: بہت ہی سست، بہت ہی دیر کرنے والا۔ اِبْطاء: آہستہ ہونا، مزاحمت، روک، رکاوٹ، رفتار میں کمی، پیچھے رہنا، توقف کرنا، دیر لگانا، منتظر رہنا، دیر میں آنا، دیر میں پہنچنا، تاخیر، دیر، آہستگی۔ دُونَ ابطاء: بلا تاخیر۔ تَباطُؤ: آہستگی، آہستہ ہونا، روک، رکاوٹ، دھیما ہونا، دیر سے واقع ہونا، مقررہ وقت کے بعد واقع ہونا۔

○ بَطّارِیَة جمع بطاریات: بیٹری (برقی یا فوجی)۔

○ بَطاطا و باطَة: میٹھا آلو، اروی، رتالو۔

○ بطاطس: آلو (جمع)۔

○ بَطْبَطَ بَطْبَطَةً: بطخ کا قیں قیں کرنا۔

بطح: ۱۔ بَطَحَ ۔ بَطْحًا ہ: کو منہ کے بل گرانا۔ اِنْبَطَحَ الرجلُ: منہ کے بل گرنا۔ الباطِح (فا): منہ کے بل گرنے والا، لیٹنے والا۔

۲۔ بَطَحَ ۔ بَطْحًا ہ: کو پھیلانا، بچھانا۔ بَطَّحَ البیتَ: گھر میں کنکریاں بچھا کر ہموار کرنا۔ تَبَطَّحَ و انبطَحَ و اِسْتَبْطَحَ الوادی: وادی کا پھیلنا،

کشادہ ہونا۔ البَطْحَاء جمع بطاح و بَطَائِح و بُطْحَاوَات و الأبْطَح جمع أبَاطِح و البطيحة جمع بَطَائِح و البِطْح: کشادہ نالہ جس میں ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں۔ البُطْحَة: مسافت۔

۳۔ البَطْحَة: قدوقامت۔ البُطْحَة: خصلت، عادت۔ کہا جاتا ہے: هذه بُطْحَة صدق: یہ سچائی کی خصلت یا عادت ہے۔ البُطاح (طب): بخار سے پیدا ہونے والی ایک بیماری۔ البُطَاحِي: برسام سے مشابہ بیماری۔

○ بَطَحَ ۔ بَطْحًا ہ/ہ: کو جھکانا، گرانا، لٹانا، زمین پر پھینکنا، گرانا۔ تَبَطَّحَ و انْبَطَحَ: منہ کے بل گرا ہوا یا افتادہ ہونا، گرا ہوا ہونا، لٹایا ہوا ہونا، پاؤں پسار کر بیٹھنا یا لیٹنا، یوں گرنا کہ ٹانگیں پھیل جائیں، پھیل جانا، پھیلا ہوا ہونا، لیٹنا۔ أبْطَح: ہموار، چپٹا، سپاٹ۔ جمع أبَاطِح: تسلا نما وادی، وادی کی وسیع گزرگاہ۔ بَطْحَاء جمع بِطَاح و بَطْحَاوَات: تسلا نما وادی، ہموار زمین، میدان، سپاٹ زمین، کھلا علاقہ۔ بَطِيحَة جمع بَطَائِح: چشمہ یا وادی کی چوڑی گزرگاہ، پانی کی بند اکھلی اور چوڑی مقدار۔ مُنْبَطِح: سجدہ ریز، چپٹا، ہموار، ہموار زمین، میدان۔

بطخ: بَطَخَ ۔ بَطْخًا ہ: کو چاٹنا۔ أبْطَخَ: بہت خربوزوں والا ہونا۔ البِطِّيخ (ن): خربوزہ کی بیل، خربوزہ، تربوز۔ البطيخ الاصفر: سردا، گرما۔ المَبْطَخَة جمع مَبَاطِخ: خربوزوں اور تربوزوں کا کھیت۔

○ بِطِّيخ و بُطِّيخ (واحد بطيخة: خربوزہ، تربوز۔ بُطَيخ: پہیے کا درمیانی حصہ، ہب (hub)، مدار۔

بطر: ۱۔ بَطَرَ ۔ بَطْرًا ہُ: کو چیرنا، شگاف دینا صفت مفعولی: مَبْطُور و بَطِير۔

۲۔ بَطِرَ ۔ بَطَرًا الحقَّ: تکبر کی وجہ سے حق کے قبول کرنے سے انکار کرنا۔ ـــ الشيءَ: پسندیدہ چیز کو ناپسند کرنا۔

۳۔ بَطِرَ ۔ بَطَرًا: زیادہ نعمت کی وجہ سے حیران ہونا، اترانا، بہک جانا۔ ـــ النعمةَ: جہل و تکبر سے نعمت کو حقیر جاننا اور اس کا شکر بجا نہ لانا صفت: بَطِر۔ أبْطَرَهُ: کو دہشت میں ڈالنا، ناشکر گزار بنانا۔ کہتے ہیں: أبْطَرَهُ ذرعَه: اس پر اس کی طاقت سے زائد لاد دیا۔

۴۔ ـــ بِطْرًا: بےکار، رائیگاں۔ کہا جاتا ہے: ذَهَبَ دمُهُ بطْرًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔ البَطَّارِية: بیٹری (فوجی)۔ بیٹری (برقی)۔

۵۔ بَيْطَرَ الدابّةَ: جانور کا علاج کرنا، اس کی نعل بندی کرنا۔ صفت: مُبَيْطِر و بَيْطَر و بَيْطَار جمع بَيَاطِرَة۔ البَيْطَرَة: سالوتری کا پیشہ۔

۶۔ البِطْرِير: زبان دراز، بہت چیخنے والا۔

۷۔ البَطْرَشِيل و البَطْرَشِين: ایک قسم کا لمبا کپڑا جس کو کاہن ڈیوٹی اور خدمت کے وقت استعمال کرتا ہے۔

۸۔ البَطْرَك و البَطْرِيَرك و البَطْرِيك جمع بَطَارِكة و بَطَارِيك: میرا سقف، پادریوں کا سردار، پیشوا، عیسائیوں کے کسی گروہ کا سردار۔

۹۔ البَطْرِيق جمع بَطَارِق و بطَارِيق و طارقة: رومی فوج کا جرنیل۔ (ح): پنگوئین آسٹریلیا کا ایک پنکھ دار آبی پرندہ جو اڑ نہیں سکتا۔

○ بطر: بَطِرَ ۔ بَطَرًا: وحشی ہونا، شوخ و چنچل ہونا، بے لگام ہونا، اوباش ہونا، لاپرواہ ہونا، عاقبت نااندیش ہونا، بے احتیاط ہونا، مغرور ہونا، خودنما ہونا۔ ـــ ہ: سے غیر مطمئن، ناخوش ہونا، کا لحاظ نہ کرنا، سے بے التفاتی کرنا، کو نظر انداز کرنا۔ أبْطَرَ: غیر محتاط بنانا، عاقبت نااندیش بنانا۔ بَطَر: رندی، بدکاری، آوارگی، بددماغی، تکبر، غرور، ہلکاپن، چھچھوراپن، خود بینی، خودنمائی۔ أبَاطِرَة: جویائے سرور، لذت طلب کرنے والے، پلے بوائز۔

○ البَطْراء: پیٹرا (Petra) ایک قدیم شہر ادومیوں اور نباطیوں کا) اب جنوبی مغربی اردن میں اس کے کھنڈرات ہیں۔

○ بَطْرَخ جمع بَطَارِخ: مچھلی کے بیضہ دان میں انڈوں کا گچھا۔

○ بُطْرُس: پیٹر Peter۔

○ بَطْرَشِيل و بطرشين: لمبا جامہ یا چغہ (قدیم روم میں) ریشم کا دوپٹہ جو کندھے پر ڈالا جاتا تھا اور گھٹنوں تک لٹکا رہتا تھا۔

○ بَطْرِيق جمع بَطَارِقة و بطارِيق: قدیم روما کا اصلی شہری، خاندانی امیر، نجیب، شریف، قیصر روم کا وائسرائے، رومن جنرل، پنگوئین Penguin۔

بَطْرَك و بَطْرِيك و بطريرك جمع بَطَارِكة: خاندان کا سربراہ، سردار قبیلہ، سردار قابل احترام بزرگ، بزرگ، پادری کا لقب۔ بَطْرَكِيَّة و بَطْرِيَرْكِيَّة: قبیلے کی سرداری۔ اسقف یا پادری کا علاقہ۔

بطش: بَطَشَ ۔ بَطْشًا به: کی یکایک سخت گرفت کرنا۔ ـــ عليه: پر حملہ کرنا، ٹوٹ پڑنا صفت: بَاطِش و بَطَّاش و بَطِيش: کہا جاتا ہے: فلانٌ يَبْطُشُ في العلم بباعٍ بسيط: فلاں شخص علم سیکھنے میں بہت تیز رفتار ہے۔ بَاطَشَهُ: ایک دوسرے کو سختی سے پکڑنا۔

○ بَطَشَ ۔ بَطْشًا: زور سے حملہ کرنا۔ ـ في/ب: پر ٹوٹ پڑنا، کو پچھاڑنا، زیر کرنا، پر بوجھ ڈالنا۔ ـــ ب: کو پچھاڑ دینا، ضرب سے بے ہوش یا وقتی طور پر ناکارہ کر دینا، کو مارنا، پر ضرب لگانا۔ پر بھدے سے گرنا یا پڑنا۔ بَطْش: طاقت، قوت، سختی، زور، تشدد، ہمت، شجاعت، بہادری، دلیری، جبر، تعدی، جور و جفا، ظلم و ستم۔ بَطْشَة: تصادم، ٹکر۔

بطع: الأبْطَع: وہ شخص جس کے سامنے والے نیچے کے دانت گر گئے ہوں۔

بطق: البِطَاقة جمع بَطَائِق: خط، پرچہ۔ ـــ بطاقة الثوب: کپڑے پر لگی ہوئی چٹ جس پر کپڑے کی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔

○ بِطَاقة جمع بطاقات، بِطَائق: (کاغذکی) سلپ، ٹیگ، کارڈ، پیشہ کا کارڈ۔ بطاقة شخصية و بطاقة التعريف: شناختی کارڈ۔ بطاقةُ المَوَادِ الغِذَائِية و بطاقة التَّمْوِين: راشن کارڈ۔ بطاقة المُعَايَدَة: مبارکبادی کارڈ۔

بطل: ۱۔ بَطَلَ ۔ بَطْلًا و بُطُولًا: خراب ہونا، بے فائدہ ہونا، بیکار ہونا صفت: بَاطِل۔ أبْطَلَ الشيءَ: کو ضائع کرنا، باطل کرنا۔ البُطْل: باطل، رائیگاں۔ کہا جاتا ہے: ذهب دمُه بُطْلًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔ البُطْلات: لغویات، فضولیات۔

۲۔ بَطَلَ ۔ بَطَالةً الفاعِلُ من العمل: معطل ہونا، بے کار ہونا صفت: بَطَّال۔ بَطَّلَهُ: کو معطل کرنا، بے کار کرنا۔ تَبَطَّلَ: معطل ہونا۔ البَطَالة: بیکاری، کام سے فراغت۔

۳۔ بَطَلَ ۔ بُطْلًا و بُطُولًا و بُطْلَانًا: خراب ہونا، رد ہونا، منسوخ ہونا۔

۴۔ بَطَلَ ۔ بَطَالةً في كلامِه: تمسخر کرنا۔ أبْطَلَ الرجُلُ: تمسخر کرنا۔

۵۔ بَطُلَ ۔ بَطَالةً و بُطُولةً: بہادر ہونا، دلیر ہونا۔ صفت: بَطَل جمع أبْطَال مونث بَطَلة جمع بَطَلات۔ تَبَطَّلَ: شجاع بننا۔

۶۔ أبْطَلَ: باطل کام کرنا، جھوٹ بولنا صفت: مُبْطِل۔

تَبَطَّلَ القومُ بینهم: آپس میں لغو و باطل کام کرنا۔ البُطْل: جھوٹ۔ البَاطِل (فا) جمع أبَاطِیل: باطل، ناحق، شیطان، ساحر، جادوگر۔

(ض) ۱۔ بَطَلَ ۓ بُطْلاً و بُطْلاناً: کالعدم، قانوناً بے ضابطہ یا بے اثر، یا کالعدم، جھوٹا، بودا، کمزور، غیر مستحکم، بیکار، ناکام، لاحاصل، فضول، ناکارہ یا بے اثر و بے نتیجہ ہونا یا ہو جانا، منسوخ ہو جانا، رائج نہ رہنا، متروک ہو جانا، رک جانا، جاری نہ رہنا، ختم ہونا، بے حرکت، بے عمل یا سست ہونا، بے کار و بیروزگار ہونا۔ بَطَّلَ ہ: کو ناکام بنانا، بے اثر کرنا، غیر مؤثر کرنا، کا توڑ کرنا، دفعیہ کرنا، کو بے اثر کرنا، کا اثر توڑنا، کو غیر جانبدار بنانا، کو کالعدم قرار دینا، کو یکسر ختم کر دینا، منسوخ کرنا، کو کچل دینا، دبا دینا، کو ختم کرنا، کا خاتمہ کرنا، کو ضبط کرنا، روکنا، نہ بتانا، پوشیدہ رکھنا، کو ممنوع قرار دینا۔ أَبْطَلَ بمعنی بَطَّلَ، أبْطَل: بچوں کی سی باتیں کرنا۔ ـــ ہ: (مخالف کو) بے بس کر دینا، غیر متحرک کرنا، ختم کر دینا۔ بُطْل: انفساخ، معدومیت، کالعدم یا باطل ہونا، ناکارہ ہونا، فضول ہونا، بے اثر ہونا، مایا، سراب، غیر حقیقی شے، بے اصل بات، بطلان، جھوٹ، کھوٹ، ناراستی۔ بطالة و بَطَالَة: سستی، کاہلی، بے کاری، آرام طلبی، بے عملی، فارغ وقت، چھٹیاں، تعطیلات، بیروزگاری۔ بَطَّال جمع بَطَّالُون: سست، کاہل، بے کار، بے عمل، بے حرکت، بے روزگار۔ بُطْلان: انفساخ، معدومیت، ناکارہ ہونا، لاحاصل ہونا، مایا سراب غیر حقیقی شے، جھوٹ، کالعدم ہونا۔ إبطال: ناکام بنانا، بے اثر کرنا، کالعدم قرار دیا جانا، تباہی، بربادی، تنسیخ۔ بَاطِل: بیکار، جو نافذ العمل نہ ہو، غیر نافذ، غیر مؤثر، ناکام، لاحاصل، فضول، ناکارہ، بے اثر، بے نتیجہ، جھوٹ، غلط، لغو، بے سروپا، نامعقول، بعید از قیاس، بے تکا، مضحکہ خیز، بے بنیاد، قانوناً بے ضابطہ، بے اثر، کالعدم، دھوکا، جھوٹ، دروغ، کذب، ناحق۔ بالبَاطِل و باطلاً: دھوکے سے، فضول، بیکار، لاحاصل۔ أبَاطِیل: مایا، سراب، فضول باتیں، معمولی سی چیزیں، ادنی سی باتیں، بیکار باتوں میں ضیاع وقت، بیکار باتیں، بچوں کی سی باتیں۔ مُبْطِل: بچوں کی سی باتیں کرنے والا، باتونی مقرر، بکی مقرر، بے معنی باتوں میں وقت ضائع کرنے والا، جھوٹا۔ مُبْطَل: بے کار، فضول، لاحاصل، بے کار، بے فائدہ، بے اثر، ہیچ، نکما۔ مُتَبَطِّل: بے روزگار۔

(ک) ۲۔ بَطُلَ ۓ بَطَالَة و بُطُولَة: بہادر ہونا، دلیر ہونا، رستم صفت ہونا، غازی ہونا؛ ہیرو ہونا، سورما ہونا، میر افسانہ ہونا۔ بَطَل جمع أبْطَال: بہادر، رستم صفت، غازی، ہیرو، سورما، میر افسانہ، حمایتی، حامی، پشتیبان، میر، چیمپین، بانی، رہنما، ہیرو، کسی ناٹک کا خاص کردار، ممتاز شخص، سرغنہ، سربرآوردہ، (فلمی) ستارہ۔ بَطَلُ العالم: ورلڈ چیمپین (کھیلوں میں)۔ بطالة: شجاعت، شجاعانہ کردار۔ بَطَلَة: ہیروئن (کسی قصہ کی)، خاتون چیمپین، خاتون ستارہ (فلمی وغیرہ)۔ بُطُولة: بہادری، شجاعت، شجاعانہ کردار، سربرآوردہ رول، (فلم تھیٹر میں) بڑا اداکار یا اداکارہ ہونا، (کھیلوں میں) اول آنا، جیت یا بہادری یعنی چیمپین شپ Championship۔ البطولة العالمية یا بطولة العالم: ورلڈ چیمپین شپ۔ دورُ البُطُولة: ہیرو کا کردار، سرکردہ کردار، اداکاری۔

بطم: البُطْم (ن): تارپین کا درخت۔

بطن: ۱۔ بَطَنَ ۓ بُطوناً و بَطْناً: پوشیدہ ہونا، صفت باطِن۔ ـــ ۓ بَطْناً الامرَ: کسی بات کی تہ تک پہنچنا۔ باطَنَ ہُ: سے سرگوشی کرنا، دوستی کرنا۔ بَطَّنَ الثوبَ: کپڑے میں استر لگانا۔ أبْطَنَ الشيءَ: کو چھپانا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے میں استر لگانا۔ تَبَطَّنَ و إسْتَبْطَنَ الامرَ: کسی بات کی تہ تک پہنچنا۔ البَاطِنَة: بھید۔ بِطَانة جمع بطائن: بھید۔ ـــ الثوب: کپڑے کا استر۔ ـــ الرجل: آدمی کے اہل و عیال اور خواص۔

۲۔ بَطِنَ ۓ بُطوناً و بَطَانةً: بڑے پیٹ والا ہونا، توند والا ہونا صفت: بَطِن و بَطِین و مِبْطان۔ ـــ ۓ بُطْناً ہُ ولَہُ: کے پیٹ پر مارنا۔ ـــ الوادیَ: وادی میں داخل ہونا۔ بُطِنَ بَطْناً: پیٹ کے درد میں مبتلا ہونا۔ صفت: مَبْطُون بَطَّنَ و أبْطَنَ الدابَّةَ: جانور پر تنگ کسنا۔ تَبَطَّنَ و إسْتَبْطَنَ الشيءَ: کے اندر داخل ہونا۔ اسی سے ہے: تَبَطَّنَ الوادیَ وغیرہ۔ البَطْن جمع بُطُون و أبْطُن و بُطْنان: پیٹ۔ ہر چیز کا اندر کا حصہ۔ بطنُ الارض: زمین کا پست و نشیبی حصہ۔ کہا جاتا ہے: القت الدجاجةُ ذا بطنِها: مرغی نے انڈا دیا۔ صاحت عصافیرُ بطنِهِ: اسے بھوک لگی۔ البَطَن: پیٹ کی بیماری۔ البِطَان جمع أبْطِنَة و بُطُن: تنگ جس سے جانور کا پالان کسا جاتا ہے، ایک کپڑا جو گھوڑے پر اس کو مکھیوں سے بچانے کے لئے ڈالا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: فلان عریض البطان: فلاں شخص امیر اور خوشحال ہے۔ التقت حلقتا البطان: معاملہ تخت ہو گیا، مصیبت سنگین ہو گئی۔ البِطْنَة: بسیار خوری کی وجہ سے بہت شکم پری۔ البَطِین: بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے: کیسٌ بطینٌ: بھری ہوئی تھیلی۔ البُطَین: چھوٹا سا پیٹ۔ (ع ا): دل کا جوف یا خلو، جوف قلب۔ المُبَطَّن: پتلے اور چپکے ہوئے پیٹ والا۔

۳۔ تَبَاطَنَ المكانُ: جگہ کا دور ہونا۔ البَطِین: دور۔ کہا جاتا ہے: شَأْوٌ بطینٌ: مسافت بعیدہ، دور کی مسافت۔

۴۔ المُبَطَّنَة: ایک قسم کی کشتی۔

(ن) بَطَنَ ۓ بطنا و بُطُوناً: چھپا ہوا ہونا، چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ بَطُنَ ۓ بَطَانَةً: توندوالا ہونا۔ بَطَّنَ ہ ب: (کپڑے کو) کا استر لگانا، کوئی چیز کوئی اور چیز والی ہونا، کسی چیز کے اندرونی حصہ کو کسی چیز سے ڈھکنا، کو کے ساتھ لگانا، کو سے بھرنا، پر کی تہ چڑھانا۔ أبْطَنَ ہ: کو چھپانا، کو دل میں رکھنا۔ تَبَطَّنَ: کپڑے کا دھاریدار ہونا، استر لگا ہونا۔ ـــ ہ: کے آر پار ہو جانا، کی تہ کو پہنچنا، کی چھان بین کرنا، کی تحقیقات کرنا، میں منہمک یا مستغرق ہونا۔ استبطن ہ: کے آر پار ہو جانا، کی تہ کو پہنچنا، کی چھان بین کرنا، کی تحقیقات کرنا، میں منہمک ہونا، مستغرق ہونا، کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، کے متعلق گہری معلومات رکھنا، کا گہرا علم ہونا، کو پوری طرح جاننا، کی پوری طرح چھان بین کرنا۔ بَطْن جمع بُطُون و أبْطُن: پیٹ، بچہ دانی، رحم، اندر، اندرونی حصہ، گہرائی۔ بَطْنُ القدم: تلوا۔ بَطْنُ الكف: ہتھیلی، کف دست۔ رقصُ البَطْن و رقصُ البُطُون: کولہا ناچ، بیلی ڈانس belly dance۔ في بطون: کے اندر، میں۔ وَلَدَتْ بَطْناً واحداً: اس عورت نے صرف ایک بار بچہ جنا۔ بَطْناً لِظَهْرٍ: بالکل اُلٹا، اوندھا، درہم برہم۔ بَطْنِی: پیٹ کا، شکمی، اندرونی، معدے کا۔ بَطِن: توندوالا۔ بِطْنَة: جوع البقر، بسیار خوری، بدہضمی، سوئے ہضم۔ بِطَان جمع أبْطِنَة: اونٹ کے زین کا تنگ، زیر بند، پیٹی۔ بِطَانَة جمع بَطَائن: اندر، اندرونی حصہ، (کپڑے کا) استر، خدم وحشم، نوکر چاکر (جو کسی کے جلو میں ہوں) حاشیہ نشین۔ في بطانة: کے درمیان (میں)، میں کے دوران میں، کے اندر۔ بَطِین جمع بِطَان و بِطْنان: توندوالا، موٹا، فربہ، تجیم شحیم، جسیم، کھاؤ، پیٹو، پرخور۔ بُطَیْن: دل کا خلو، جوف۔ بَطَّانِیة جمع بَطَّانیات و بَطَاطِین: ڈھکنا، سرپوش، کمبل، لحاف، رضائی۔

بَاطِن جمع بَوَاطِن: اندرونی، اندر، دلی، باطنی، روحانی، قلبی، داخلی، ذاتی، اصلی، حقیقی، پوشیدہ، پنہاں، مخفی۔ البَاطِنَة: مشرقی عمان کا ساحلی میدان۔ بَاطِناً: دلی طور پر، روحانی طور پر، پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر، باطن الکف: ہتھیلی۔ باطِنُ القدم: پاؤں کا تلوا۔ فی بَاطِنِ الأمرِ: بنیادی طور پر، بہرحال، بہرصورت، واقعی، درحقیقت۔ بواطنُ الأمر: عناصر، لازمی اجزاء، کی تہہ میں حالات یا وجوہات۔ بَوَاطِنُ الأرض: زمین کی پوشیدہ یا پنہاں گہرائیاں۔ بَاطِنی: اندرونی، باطنی، داخلی، اصلی، نفس کا۔ مرضٌ باطنی: اندرونی بیماری۔ الطب الباطنی: اندرونی دوا۔ البَاطِنِيَة: اسلام میں ایک مکتب فکر کا نام جو وحی شدہ نصوص کے پوشیدہ اور مخفی مفہوم کو وجدان سے جاننے سے متصف ہے۔ مَبْطُون: گیس یا آنتوں کی بیماری میں مبتلا۔ مُبَطَّن: دھاریدار۔ ــ ب: سے بھرا ہوا۔

٢۔ بَطَّنَ ہ: (کپڑے وغیرہ کو) صاف کرنا، کلف دینا۔ باطَان: کپڑے صاف کرنے اور انہیں کلف دینے کا کارخانہ۔

بطی: البَاطِيَة جمع بَوَاطٍ: شراب کے لئے شیشہ کا برتن۔

○ باطِيَة: جگ، صراحی، جھجھری، گھڑا۔

بظ: بَظَّ ۔ بَظًّا العُودَ (مو): سارنگی کے تاروں کو بجانے کے لئے حرکت دینا۔ أَبَظَّ الرجلُ: فربہ ہونا، صفت: بَظِيط۔ البَظّ: (لفظ کا اتباع) کہا جاتا ہے: هو فظٌّ بظٌّ: وہ سخت مزاج اور تندخو ہے۔

○ بَظَّ ۔ بَظًّا: دھار بن کر نکلنا، پھوٹ بہنا، زور سے نکلنا، پھوٹ نکلنا۔

بظر جمع بُظُور: بظر، چھولا clitoris۔

بع: ا۔ بَعَّ ۔ بَعًّا الماءَ: پانی کو بکثرت بہانا۔ البَعَاع: بادل میں موجود پانی۔ (کہا جاتا ہے: القی السحابُ بَعَاعَهُ: بادل نے سارا پانی برسا دیا)، سامان۔

٢۔ البَعْبَعَة: جلدی جلدی بولتے چلا جانا، بعض الفاظ کی نقل۔

○ بُعْبُع جمع بَعَابِع: بیچا، ہوّا۔

بعث: ا۔ بَعَثَ ۔ بَعْثاً و تَبْعَاثاً ہ: کو تنہا بھیجنا۔ ــ به: کو دوسرے کے ساتھ بھیجنا۔ اِبْتَعَثَهُ: کو بھیجنا۔ البعث و البَعَث جمع بُعُث و بُعُوث: فوج، ہر وہ جماعت جسے کہیں بھیجا جائے۔ البَعْثة: (بَعْث کی طرح) ہر وہ جماعت جسے کہیں بھیجا جائے جیسے: بعثة عسکرية: فوجی وفد یا بعثة سياسية او ثقافية: سیاسی یا ثقافتی وفد۔ البَعِيث: بھیجا ہوا۔ الباعُوث جمع بواعيث: عید الفصح کے دوسرے دن کی نماز، بارش طلبی کی نماز یا دعا (سریانی لفظ)

٢۔ بَعَثَ ۔ بَعْثاً و تَبْعَاثاً ہُ: کو برانگیختہ کرنا، ابھارنا۔ کہا جاتا ہے: بعثه من نومه: اس نے اسے نیند سے جگایا۔ بعثه علی الشیء: اس نے اسے کسی کام کے لئے اکسایا۔ ـــ ۔ بَعَثاً: جاگتا رہنا۔ تباعثوا علی الشیء: ایک دوسرے کو اسے کرنے پر اکسانا۔ اِنْبَعَثَ: بھیجا جانا۔ البَعْث و البَعَث جمع بُعُث و بُعُوث: وہ شخص جسے اس کی فکریں یا غم بیدار رکھیں اور سونے نہ دیں۔ البَاعِث و البَاعِثَة جمع بَوَاعِث: سبب، باعث۔

٣۔ بَعَثَ ۔ بَعْثاً و تَبْعَاثاً الميتَ: مردے کو اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا۔ اسی سے ہے: يومُ البعث: دوبارہ اٹھانے یا زندہ کیا جانے کا دن، جسے یوم القیامة بھی کہا جاتا ہے۔

٤۔ تَبَعَّثَ الشیءُ: تیزی سے نکلنا، ظاہر ہونا۔ ـــ الشِعرُ منه: سے شعر کی آمد ہونا۔ اِنْبَعَثَ: تیزی سے ظاہر ہونا۔ ـ فی السیر: چلنے میں جلدی کرنا۔

٥۔ بَعْثَرَ بَعْثَرَةً ہ: کو بکھیرنا۔ ـ المتاعَ: سامان کو الٹنا پلٹنا۔ تَبَعْثَرَ: الٹ پلٹ ہونا۔ کہا جاتا ہے: تبعثرت نفسی: میری طبیعت میں بگاڑ ہو کر متلی ہونے لگی۔

○ بَعَثَ ۔ بَعْثاً ہ/ب إلی: کو کے پاس بھیجنا، ارسال کرنا، کو کے پاس اوپر بھیجنا، کو کے پاس آگے بھیجنا۔ ـــ ہ/ب اِلی: کو کے پاس نائب یا نمائندہ بنا کر بھیجنا۔ ـــ ہ/ب: کو نکالنا، چھوڑنا، ظاہر کرنا۔ ـــ ہ: کو ابھارنا، ظہور میں لانا، جگانا، جوش میں لانا، بھڑکانا، کا باعث بننا، کو شروع کرنا، کا سلسلہ چھیڑنا، کو ہوش میں لانا۔ ـ ہ من الموت: کو زندہ کرنا۔ ـ علی: پر ابھارنا، پر اکسانا، پر آمادہ کرنا، کی ترغیب دینا، کو برپا کرنا، کا باعث ہونا۔ بَعَثَ اِلیه هزّةَ الخَوفِ: کو بدحواس کرنا۔ بعث روح الحياة فی: میں زندگی کی روح پھونکنا، کو پھر سے پیدا کرنا۔ اِنْبَعَثَ: بھیجا جانا، نمائندہ یا نائب کے طور پر بھیجا جانا، وجود یا عمل میں لایا جانا، مشتعل کیا جانا، مشتعل ہونا۔ ـــ من الموت: موت سے دوبارہ زندہ ہونا۔ ـــ من: میں لایا جانا یا آنا، کے ذریعے وجود میں آنا، سے نکلنا، سے پیدا ہونا، سے بڑھنا، پختگی یا تکمیل کو پہنچنا۔ ـــ (خوشبو) نکلنا۔ ـــ بعمل: کرنے لگنا۔ اِبْتَعَثَ ہ: کو بھیجنا، ارسال کرنا۔ بَعْث: بھیجنا، اخراج، ترسیل، روانہ کرنا، جماعت نمائندگان، جماعت، مندوبین، وفد، زندہ کرنا۔ بُعُوث: وفد (جمع) وفود۔ حزب البعث: نشاۃ ثانیہ پارٹی، ایک سیاسی پارٹی کا نام جو مضبوط اشتراکی رجحانات کی حامل ہے۔ يومُ البعث: یوم قیامت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ بَعْثة جمع بَعَثَات: وفد، مشن، مہم، طلبہ کی ادلا بدلی۔ ادلا بدلی طلبہ کا گروہ، نشأۃ ثانیہ، احیاء، دوسرا جنم، دوسری بار پیدائش، دوسرا روپ، دوسرا ظہور، عروج۔ بعثة عسكرية: فوجی مشن۔ بعثة دبلوماسية: ڈپلومیٹک مشن۔ بعثة اثرية: آثار قدیمہ سے متعلق مہم۔ رئيس البعثة: مشن کا سربراہ۔

○ باعُوث: عید الفصح۔ حضرت عیسی کے قبر سے اٹھنے کا دن۔

○ مبعث: بھیجنا، ترسیل، اوپر بھیجنا، آگے بھیجنا، اخراج، جگانا، ہوشیار کرنا، اکسانا، ابھارنا جمع مَبَاعِث: سبب، عامل۔ باعِث جمع بَوَاعِث: محرک، تحریک، ترغیب، وجہ تحریک، سبب حرکت، مقصد، حرکت دینے والی قوت، مہمیز، سبب، وجہ، موقع۔ مبعوث: جسے بھیجا گیا ہو، قاصد، نائب، سفیر، ایلچی، ڈیلیگیٹ، منتخب نمائندہ، مندوب نمائندہ، ڈپٹی (سلطنت عثمانیہ میں)۔ مُنْبَعَث: منبع، سرچشمہ، ماخذ، مصدر، جڑ، بنیاد، ذریعہ، نقطہ آغاز۔

○ بَعْثَرَ بَعْثَرَةً ہ: کو بکھیرنا، ادھر ادھر پھیلا دینا، پٹکنا، کو بے ترتیب کر دینا، درہم برہم کرنا، کو ضائع کرنا، برباد کرنا، منتشر کرنا، (دولت) اڑانا، لٹانا۔ تَبَعْثَرَ: بکھرنا، ادھر ادھر پھیل جانا، پٹکا جانا، بے ترتیب ہونا، درہم برہم ہونا، ضائع ہونا، برباد ہونا، منتشر ہونا، اڑایا یا لٹایا جانا، ضائع ہونا۔ مُبَعْثَر: بکھرا ہوا، دور تک پھیلا ہوا۔

بعج: بَعَجَ ۔ بَعْجاً البطنَ: پیٹ پھاڑنا، صفت فاعلی: باعج: صفت مفعولی: مَبْعُوج و بعيج: (بعيج مذکر و مؤنث دونوں کے لئے آتا ہے) جمع بَعْجَی۔ ـــ الأرضَ آباراً: زمین میں بکثرت کنوئیں کھودنا۔ ـــ المطرُ الارضَ و بَعَّجَ فيها: بسبب کثرت و شدت، بارش کا زمین کے پتھروں کو ننگا کر دینا۔ تَبَعَّجَ و اِنْبَعَجَ السحابُ: بادل کا برس کر کھل جانا۔ ـــ السيلُ: سیلاب کا شتابی سے بہنا۔ ـــ علیّ بالکلام: وہ میرے ساتھ فرفر بولا، بکثرت بولا۔ البَاعِجَة جمع بَوَاعِج: وادی کا

فراخ حصہ۔

○ بَعَجَ - بَعْجًا ہ: پیٹ پھاڑ کر کھول دینا۔ ۔ ہ: میں جھری بنانا، نالی بنانا، پر نشان ڈالنا، دندانے ڈالنا۔ اِنْبَعَجَ: دندانے دار ہونا، نشان پڑے ہونا، روڑے دار ہونا، ناہموار ہونا، خراشوں والا ہونا، رگڑ کھایا ہوا ہونا، کچلا ہوا ہونا، صورت بگڑا ہونا۔ مُنْبَعَج: دندانے دار، نشان پڑا ہوا۔

بعد: ۱۔ بَعُدَ - بُعْداً و بَعِدَ - بَعَداً: ہلاک ہونا، مر جانا۔ صفت: باعِد جمع بَعَد و بَعِد (مفرد اور جمع کیلئے) و بَعِید جمع بُعَدَاء و بُعُد و بُعْدان۔ جاہلیت میں مرنے والے کے لئے دعا تھی: لا تَبْعَدْ: یعنی نہ ہلاک ہو، نہ مر۔

۲۔ بَعُدَ - بُعْداً و بَعِدَ - بَعَداً: دور ہونا۔ أَبْعَدَ: دور ہونا۔ ــــ و بَعَّدَ و باعَدَہُ: کو دور کرنا۔ تَبَعَّدَ: دور ہونا۔ تَبَاعَدوا: ایک دوسرے کو دور کرنا۔ تَباعَدَ و اِبْتَعَدَ و اِسْتَبْعَدَ عنه: سے دور ہونا۔ اِسْتَبْعَدَ الشيءَ: کو دور پانا یا سمجھنا۔ البُعْد و البَعَد و البُعْدَة: دوری، فاصلہ۔ کہا جاتا ہے: بُعْدًا لَہُ: بددعا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے یا اپنی رحمت سے دور کرے۔ البُعاد: بعید کی طرح صفت ہے۔ مِبْعَد: رجُلٌ مِبْعَدٌ: دور دراز کا سفر کرنے والا۔ الأَبْعَد جمع اَباعِد: دور تر، دور ترین، بہت دور۔

۳۔ بَعْدُ: ظرف زمان بمعنی پیچھے۔ بعد، مضاف ہو کر آتا ہے اس کا مضاف الیہ اگر محذوف ہو تو ضمہ پر مبنی ہوتا ہے یا منصوب مُنوّن۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: بَعْدُ و بَعْداً و مِن بعدُ۔ البُعْد و البَعَد و البُعْدَة: رائے، ہوشیاری۔ الأَبْعَد جمع أَباعِد: خائن۔

○ بَعَدَ - بُعْدًا: دور ہونا، دور کا ہونا۔ ۔ عن: سے دور ہونا، سے فاصلہ رکھنا، سے آگے جانا، سے تجاوز کرنا۔ ۔: دور کا ہونا، بعید از قیاس ہونا۔ بَعُدَ بِہٖ عن: کو سے دور رکھنا۔ لا یَبْعُدُ أن: یہ بعید از قیاس نہیں کہ۔ بَعَّدَہ: کو ہٹانا، دور کرنا، کو جلاوطن کرنا، کو دیس نکالا دینا، شہر بدر کرنا۔ باعَدَ بین: کے درمیان علیحدگی کا باعث ہونا۔ باعَدَ بین فلان و بین الشيء: کو کوئی چیز حاصل کرنے سے روکنا۔ باعَدَ بین اَجْفانِہ: ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ اَبْعَدَ ہ: کو دور کرنا، ہٹانا، لیجانا، خارج کرنا، نکال دینا، موقوف کرنا، منسوخ کرنا، سے پیچھا چھڑانا۔ ــ ہ: کو برخاست کرنا، جلاوطن کرنا، شہر بدر کرنا، دیس نکالا دینا۔ ــ ہ: کو بعید از قیاس یا ناممکن بنانا، خارج کرنا، نکال دینا۔ ۔ فی: میں یا کے ساتھ بہت دور جانا۔ ــــ: بہت دور چلا جانا۔ تَباعَدَ: ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا، واقع ہونا، کچھ فاصلہ پر ہونا، الگ ہونا، علیحدگی اختیار کرنا، بیگانہ ہونا، کھچے کھچے رہنا۔ ۔ عن: سے دور چلا جانا، پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، تجاوز کرنا، انحراف کرنا، سے دور رہنا، سے فاصلہ رکھنا، کو چھوڑ دینا، سے بچنا، کنی کترانا، احتراز یا گریز کرنا۔ ــــ: باقاعدہ وقفوں میں ہونا یا آنا۔ اِبْتَعَدَ: دور چلا جانا، دور ہونا۔ ۔ عن: سے دور رہنا، سے پیچھے ہٹنا، کو چھوڑ دینا، سے بچنا، کنی کترانا، احتراز، یا گریز کرنا، کو نظر انداز کرنا، کی پروانہ کرنا، کا لحاظ نہ کرنا۔ اِسْتَبْعَدَ ہ: کو چن لینا، بچا کر رکھنا، کو دور سمجھنا، بعید از قیاس سمجھنا، کو بعید از قیاس خیال کرنا۔ ۔ ہ: کو نااہل قرار دینا۔ بُعْد: دوری، جمع اَبْعاد: فاصلہ، طول، عرض اور گہرائی یا موٹائی میں ایک بعد، وقفہ، علی بُعْد اور علی البُعد: فاصلہ پر، دور۔ علی بُعدِ مئة مِتر: سو میٹر کے فاصلہ پر۔ عن بعد اور من بعد: ایک فاصلہ سے، سے دور۔ ذو ثلاثة أبعاد: سہ بعدی (جس میں لمبائی، چوڑائی کے علاوہ موٹائی بھی نظر آئے three dimensional)۔ قیاسُ الأَبعاد: سادہ پیمائش (linear measure)۔ بُعْدُ الہِمَّة: بلند تمنائیں، مقصد کی بلندی۔ بُعْدُ الشِقَّة: وسیع وقفہ، وسیع خلا۔ بُعْدُ الصِیْت: شہرت، ناموری۔ بُعْدُ الصوت: شہرت، ناموری۔ بُعْدُ النظر: دور بینی، دور اندیشی۔ بَعْدُ: تب، پھر، اس کے بعد، بعد میں، بعد میں پھر، بعد ازاں، ابھی تک۔ فیما بعد: بعد ازاں، بعد میں۔ اما بعدُ: اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے۔ ھو بعدُ صغیرٌ: وہ محض یا صرف ایک چھوٹا لڑکا ہے، وہ ابھی تک چھوٹا ہے۔ لم یاتِ بعدُ: وہ ابھی تک نہیں آیا۔ بَعْدَ: (کے) بعد، کے علاوہ۔ بعدَ کَوْنِہ: اس حقیقت سے قطع نظر کہ وہ...... ہے۔ بعدَ ذلك: بعد ازاں، اس کے بعد، بعد میں، مزید برآں۔ بعدَ ذاك: علاوہ ازیں، مزید برآں۔ بعدَ أنْ: کے بعد۔ بعدَ إذ و بَعْدَ ما اور مِن بعدِما: (کے) بعد۔ سَفَہٌ مابَعْدَہُ سَفَہٌ: حماقت یا کند ذہنی کی انتہاء۔ بَعْدَئِذٍ: تب، اس کے بعد، بعد ازاں، پھر، اس کے بعد۔ بَعِید جمع بُعَدَاء و بُعُد و بُعْدان و بِعاد عن: سے دور۔ ــ: دور، دور افتادہ، پرے کا، اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا کر، دور رس، دور تک پھیلا ہو، مکمل، جامع، دور از کار، بعید از فہم، دور از قیاس، غیر معمولی، انوکھا، نرالا، عجیب، ناواقف، عجیب سا۔ ــــ عن: سے متضاد کا عکس، کا الٹ۔ سے بے میل یا بے جوڑ۔ من بعید: دور سے، فاصلہ سے۔ منذُ عهدٍ بعید: بہت عرصہ پہلے۔ بعیدُ الأثر: دور رس نتائج کا حامل۔ بعید التاریخ: قدیم، دور زمانہ میں، تاریخ میں رو واپس جاتے ہوئے۔ بعید الشأو: عالی منش، عالی ظرف، نڈر، بے خوف، منچلا دلیر، جوانمرد۔ بعیدُ الشِقَّة: دور، بعید۔ الغَوْرِ: گہرا، بے پایاں، اتھاہ۔ بعیدُ المَدَی: طویل المسافت، دور مار، دور تک پھیلا ہوا، بہت بڑا، دور رس۔ بعیدُ النظر: دور بین، دور اندیش۔ بعیدُ المَنال: بمشکل ممکن الحصول، جس تک پہنچنا دشوار ہو۔ ذَهَبَ بعیداً: بہت دور جانا، دور افتادہ ممالک میں جانا۔ تَطَلَّعَ إلی بعید: دور نظر کرنا۔ بُعَیْدَ: کے تھوڑی دیر بعد، کے جلد بعد۔ اَبْعَد جمع أباعِد: زیادہ دور، زیادہ فاصلہ پر، زیادہ وسیع، کم ممکن، زیادہ بعید از قیاس جمع اَباعِد: بہت دور کے رشتے دار۔ الشرق الأبعد: مشرق بعید۔ الأَبْعَد: غیر حاضر، غیر موجود (مہذب پیچیدہ کلام میں ایسے شخص کے لئے مستعمل ہے جس پر تنقید کی جارہی ہو یا جس پر کوئی الزام لگایا جارہا ہو۔ نیز متکلم اور مخاطب کا ذکر کرتے ہوئے بھی استعمال کیا جاتا ہے)۔ أَبْعَادِیَة جمع أَبْعَادِیات: دیہی جاگیر، تعلقہ یا زمینداری۔ تَبْعِید: جلاوطنی، دیس نکالا۔ بِعَاد: فاصلہ، دوری۔ مُبَاعَدَة: نااتفاقی کا بیج بونا، باہمی کشیدگی، باہمی رنجش۔ اِبْعاد: نکالنا، ہٹانا، جدائی، علیحدگی، اخراج، جلاوطنی، دیس نکالا، ترکِ وطن۔ تَبَاعُد: باہمی دوری، باہمی کشیدگی، باہمی رنجش۔ مُبْعَد: جلاوطن کیا ہوا۔ مُتَبَاعِد: الگ، جدا، علیحدہ، منفصل۔ فی فَتَراتٍ مُتَباعِدَة: طویل وقفوں پر یا میں۔ فی فترات متباعدة من الزَمَن: شاذ یا کبھی کبھار کے وقفوں پر، وقتاً فوقتاً۔ مُسْتَبْعَد: بعید از قیاس۔

بعر: ۱۔ بَعِرَ - بَعَراً الجملُ: اونٹ کا نو یا چار سال کا ہونا۔ البَعِیر جمع بُعْران و اَبْعِرة و جمع الجمع أَباعِر و أباعیر: نو سالہ یا چار سالہ اونٹ یا اونٹنی۔

۲۔ بَعَّرَ و أَبْعَرَ و تَبَعَّرَ المِعَی: انتڑی میں سے مینگنی نکالنا۔ البَعْر و البَعَر جمع أبعار واحد بَعْرَة جمع بَعَرات: مینگنی۔ المَبْعَر و المِبْعَر: مینگنی نکلنے کی جگہ۔

بعز: بَعْزَقَ بَعْزَقَةً هُ: کو پراگندہ کرنا، بکھیرنا۔

○ مُبَعْزِق: فضول خرچ، مُسرف، مال اڑادینے والا، بے دردی سے خرچ کرنے والا۔

بعض: ا۔ بُعِضَ الرجلُ: مچھروں سے ستایا جانا۔ أَبْعَضَ المكانُ: جگہ کا بہت مچھروں والا ہونا، جگہ میں مچھروں کی بہتات وکثرت ہونا۔ صفت: بَعِض و مَبْعُوض۔ البَعُوض (ح): مچھر۔

۲۔ بَعَّضَ هُ: کو جزء جزء کرنا، کے حصے بنانا۔ تَبَعَّضَ: جزء جزء ہونا، حصوں میں منقسم ہونا۔ بعضُ الشی جمع ابعاض الشیء: چیز کا ایک جزء یا حصہ، کبھی ایک فرد کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے: بعض اللیالی: یعنی ایک رات (لیلۃٌ من اللیالی)۔

○ بَعَضَ ہ: کو ٹکڑوں یا حصوں میں تقسیم کرنا۔ تَبَعَّضَ: تقسیم ہونا، قابل تقسیم ہونا۔ بعض: ٹکڑا، حصہ، ایک، کچھ، چند، تھوڑا سا، کا کچھ۔ بعضُ العلماء: علماء میں سے ایک یا کچھ علماء۔ رفعنا بعضهم فوق بَعض: ہم نے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر سرفراز کیا۔ البعض...... البَعضُ الأخر: کچھ ......کچھ، چند......دوسرے۔ بعضهم بعضا: ایک دوسرے، ہر ایک، باہمی طور پر، مشترکہ طور پر، دونوں طرف سے، آپس میں مل کر، باہمی طور پر۔ بعضه فی بعض: ایک دوسرے میں، ایک دوسرے کے اندر۔ بعضَ الشیءِ: کسی حد تک، کسی قدر، تھوڑا سا، ذرا سا۔ مَاثَلَهُ بعضَ المماثلة: وہ اس سے کسی قدر یا کسی حد تک مشابہ تھا۔ منذ قرن و بعضِ قرن: کچھ اوپر سو سال سے۔ بَعُوضَة: (اسم جنس واحد بَعوضة) مچھر، کنکی، گنی۔ تَبْعيض: تقسیم، حصہ، حصے کرنا، حصوں میں تقسیم کرنا، کسی حصہ میں رکھنا۔

بعط: ا۔ بَعَطَ - بَعْطًا الحیوانَ: جانور کو ذبح کرنا۔

۲۔ بَعَطَ - بَعْطًا فی الجهل و الشؤم: جہالت اور بدشگونی میں مبالغہ کرنا، زیادتی کرنا۔ أَبْعَطَ فی الجهل: جہالت میں افراط کرنا۔ ــ فلانٌ: اپنے قد سے بڑھ جانا۔ ـــ الرجلَ: کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا۔

بعق: ا۔ بَعَقَ - بَعْقًا الجملَ: اونٹ کو ذبح کرنا۔

۲۔ بَعَقَ - بَعْقًا البئرَ: کنواں کھودنا۔ ـــ بُعاقًا المطرُ الارضَ: موسلادھار برسنا، بارش کا زمین کو شق کر دینا، تڑخا دینا۔ بَعَقَ الزِقَّ: مشک پھاڑ دینا۔ تَبَعَّقَ و اِنْبَعَقَ و اِبْتَعَقَ السحابُ: بادل کا زور سے برسنا۔ ـــ فی الکلام: کلام شروع کرنا۔ البُعاق: تیز برسنے والا بادل۔

۳۔ البُعاق: چیخ، آواز کی سختی۔ مَبْعَقُ المفازة: بیابان کی فراخ وکشادہ جگہ۔

بعك: بَعِكَ - بَعَكًا الجسمُ: جسم کا سخت اور کھردرا ہونا۔ بُعْكُوكَةُ الناس: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ ـ الشرّ: فساد کا مرکز۔ ـ الصیف: موسم گرما کی گرمی۔

○ بُعْكُوكَة: کلب club، انجمن، بزم۔

بعل: ا۔ بَعَلَ - بَعَالَةً و بُعُولَةً الرجلُ للمرأة: مرد کا عورت کا شوہر ہونا۔ ـــ تِ المرأةُ: عورت کا شوہر والی ہونا۔ باعَلَ القومُ قوماً: ایک قوم کا دوسری قوم میں شادی بیاہ کرنا، رشتہ ناطہ کرنا۔ تَبَعَّلَتِ المرأة: عورت کا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ استبعَلَ الرجلُ للمرأة: مرد کا عورت کا شوہر ہونا۔ البَعْل جمع بُعُول و بِعَالٌ و بُعُولَة: شوہر۔ (بیوی کو بعل بھی کہتے ہیں اور بعلة بھی)۔ مالک، سردار۔ کہتے ہیں: من بعلُ هذه الناقة؟ اس اونٹنی کا مالک کون ہے؟ اس معنی کے پیش نظر کنعانی اور دیگر بت پرست اپنے سب سے بڑے معبود کو بعل کہا کرتے تھے۔

۲۔ بَعَلَ ہ - بُعُولَةً علی الرجل: کو سے روکنا۔ کا سے انکار کرنا۔

۳۔ بَعِلَ - بَعَلاً بأمره: اپنے معاملہ میں حیران و ششدر ہونا اور نہ جاننا کہ کیا کرے۔ صفت: بَعِل مونث بَعِلَة۔

۴۔ اِسْتَبْعَلَ المكانُ: کسی جگہ کا بارانی ہونا۔ البَعْل من الأرض: بارانی زمین۔

۵۔ بَعْلَبَكّ: ایک شہر کا نام۔ نسبت کے لئے بَعْلَبَكِّي اور بَعْلِيّ کہا جاتا ہے۔

○ بَعْل: بعل نامی معبود۔ بارانی زمین یا پودے (بارش سے جن کی آبیاری ہوتی ہے)۔ ـــ جمع بُعُول و بُعُولَة: مالک، شوہر۔ بَعْلَة: بیوی۔ بَعْلِيّ: بارانی (زمین) بارش کے پانی سے آبیاری کئے جانے والے پودوں، درختوں کا یا کے متعلق۔

○ بعلبك: مشرقی لبنان کا ایک شہر جسے ازمنہ گذشتہ میں Heliopolis کہا جاتا تھا۔

بعا: بَعَا يَبْعَى و يَبْعُو بَعْوًا و بَعِيَ يَبْعَى بَعْيًا: جرم و خطا کا مرتکب ہونا۔ ـــ علیهم الشرَّ: لوگوں پر فساد و برائی برپا کرنا۔ ـــ ہ بالعین: پر نظر بد لگانا۔ ـــ الشیءَ: کو مستعار لینا۔

بغ: ا۔ بَغَّ - بَغًّا الدمُ: خون کا جوش میں آنا۔

۲۔ بَغْبَغَ بَغْبَغَةً البساطَ: فرش روندنا۔ المُبَغْبِغ: جلد باز، غیر واضح کلام کرنے والا۔

بغت: بَغَتَ - بَغْتًا و باغَتَ هُ: کے پاس اچانک آنا، ناگاہ آنا۔ بَغْتَةً، علی بَغْتَةٍ: اچانک۔ کہا جاتا ہے: لستُ آمَنُ من بَغَتاتِ العدو: میں دشمن کے آجانے سے بے خوف نہیں ہوں۔

○ بَغَتَ - بَغْتًا و بَغْتَةً ہ: کے پاس غیر متوقع طور پر آنا، پر بے خبری میں نازل ہونا۔ باغَتَ بمعنی بَغَتَ۔ نیز باغَتَ ہُ: کو حیران کر دینا، بھونچکا کر دینا۔ اِنْبَغَتَ: بھونچکا ہونا، ششدر ہونا، ہکا بکا ہو جانا، متحیر ہونا، دہشت زدہ ہونا، خوف زدہ ہونا، دم بخود ہونا۔ بَغْتَةٌ: خلاف توقع بات، اچنبھا، حیرت انگیز واقعہ۔ بَغْتَةً و علی بغتةٍ: اچانک، یکایک، حیرت انگیز طور پر، ایکا ایکی، دفعۃً۔ مُباغَتَة: اچانک آمد، حیرت انگیز واقعہ، خلاف توقع بات، اچانک حملہ، چڑھائی۔

بغث: ا۔ بَغِثَ - بَغَثًا: سبزی مائل سفید ہونا، غبار آلود ہونا۔ صفت: اَبْغَث مونث بَغْثاء۔ البُغاث جمع بِغْثان ("ب" کی تثلیث سے) (ح): سبزی مائل سفید رنگ کا ایک پرندہ جو گدھ سے قدرے چھوٹا اور اڑان میں سست ہوتا ہے۔ عرب کے اس قول کہ ان البُغاث بأرضنا یستنسر کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہ کر ذلیل وخوار بھی باعزت و باشرف ہو جاتا ہے۔ الأَبْغَث جمع بُغْث و اباغِث (ح): ایک آبی پرندہ۔ البُغْثة: سبزی مائل سفیدی۔ البغثاء من الناس: لوگوں کا مخلوط گروہ۔ کہا جاتا ہے: دخلنا فی البغثاء: ہم عام لوگوں کی جماعت میں داخل ہوئے۔

۲۔ بَغْثَرَ القومُ: لوگوں کا جوش میں آنا اور مخلوط ہونا۔ بَغْثَرَ هُ: کو جدا جدا کرنا، متفرق کرنا۔ ـــ ت نفسُهُ و تبغثرت: جی کا مالش کرنا، متلی ہونا۔ البَغْثَر: احمق۔

بغد: تَبَغْدَدَ: بغداد کی طرف منسوب ہونا، اہل بغداد سے مشابہت رکھنا۔
○ تَبَغْدَدَ: اینٹھ کر چلنا، اپنا بوجھ ادھر ادھر گرانا، تروتازہ ہونا (بغدادی شخص کی طرح رویہ اختیار کرنا یا پیش آنا۔
بغداد: عراق کا دارالحکومت۔ بَغْدادِی جمع بغدادیون و بَغادِدَة: بغداد کا باشندہ۔ شہری۔
بغر: ١۔ بَغَرَ ـ بُغُوراً النجمُ: ستارہ کا گرنا۔ ـ ت السماءُ: آسمان سے بارش برسنا۔ بُغِرتِ الارضُ: زمین پر بارش برسنا۔ البَغْر و البَغَر: بارش کی زور کی بوچھاڑ۔ کہا جاتا ہے: تفرّقوا شَغَرَ بَغَرَ: وہ چاروں طرف بکھر گئے۔ البَغْوة: پانی کی طاقت۔
٢۔ بَغِرَ ـ بُغْرًا و بَغَرًا: پانی پینا اور سیراب نہ ہونا یعنی پانی پی کر سیراب نہ ہونا۔ صفت بَغِر و بَغِير جمع بَغارَی و بُغارَی۔ البَغَر: پیاس جو نہ بجھے، نہ بجھنے والی پیاس۔
بغز: ١۔ بَغَزَ ـ بَغْزًا ہ: کو لاٹھی سے مارنا۔ البَغْز: سرعت حرکت، چستی۔ الباغِز: چست، اوباش، بدکار۔ الباغِزِيَّة: ریشم جیسا ایک قسم کا کپڑا۔
٢۔ البُوغاز جمع بَواغِيز: آبنائے (ترکی لفظ)۔
بغش: بَغَشَ ـ بَغْشًا الصبی إلی امه: بچہ کا رو کر ماں کے پاس جانا۔ ـ ت السماءُ: آسمان کا ہلکی بارش برسانا۔ بُغِشَتِ الارضُ: زمین پر ہلکی بارش ہونا، پھوار پڑنا۔ البَغْشَة: ہلکی بارش، پھوار۔
○ بَغْشَتِ السماءُ: ہلکے چھینٹے پڑنا، ہلکی بوچھاڑ پڑنا۔ بَغْشَة: ہلکی بوچھاڑ، ہلکے چھینٹے (بارش کے)۔ بُغْشَة بمعنی بغشة۔ بُغاشَة: میدے، انڈوں اور مکھن کی پیسٹری۔
بغض: بَغُضَ و بَغَضَ ـ و بَغِضَ ـ بَغاضَةً: دشمن جانا جانا، نفرت کیا جانا، جب آپ کہیں: ما أَبْغَضَهُ إلَيَّ: تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے نزدیک بہت ہی قابل نفرت ہے۔ بَغَّضَهُ الیه: کو کسی سے نفرت دلانا۔ أَبْغَضَهُ: سے دشمنی کرنا، نفرت کرنا۔ آپ کے ما أَبْغَضَنِی له کہنے کا مطلب ہے: کہ آپ کسی کی نظر میں کس قدر مبغوض ہیں۔ تَبَغَّضَ الیه: سے دشمنی کرنا، نفرت کرنا۔ تَباغَضُوا: ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا۔ البُغْض: دشمنی، نفرت۔ البَغِيض: سخت دشمنی رکھنے والا۔ البِغْضَة: دشمنی رکھنے والے لوگ۔ ـــ و البَغْضاء و البَغاضَة: سخت دشمنی۔
○ بَغِضَ ـ و بَغُضَ ـ بُغْضًا و بَغاضَةً: ناپسندیدہ ہونا، نفرت کیا جانا، قابل نفرت ہونا، نفرت انگیز ہونا۔ بَغَّضَ ہ ل: کو کے لئے قابل نفرت بنانا۔ باغَضَ ہ: سے نفرت کرنا، سخت نفرت کرنا۔ أَبْغَضَ ہ: سے نفرت کرنا، سخت نفرت کرنا۔ تَباغَضَ: ایک دوسرے سے نفرت کرنا۔ بُغْض و بِغْضَة و بَغْضاء: نفرت۔ بَغِيض إلی: کے نزدیک نفرت انگیز، قابل نفرت۔ بَغِيض: قابل نفرت، نفرت انگیز، کریہ۔ تَباغُض: باہمی نفرت۔ مَبْغُوض: نفرت کیا گیا، قابل نفرت، نفرت انگیز۔ مُبْغِض جمع مُبْغِضُون: نفرت کرنے والا۔ مُبْغَض: نفرت انگیز، قابل نفرت۔
بغل: بَغَلَهُمْ ـ بَغْلاً: اولاد کو باپ کی طرف سے بد نسل یا بدقوم بتانا، دوغلا ٹھہرانا۔
بَغَّلَ: بمعنی بَغَلَ۔ ـ فی المشی: چلنے میں تھک جانا، عاجز ہونا۔ البَغْل جمع بِغال و أَبْغال مونث بَغْلَة جمع بَغَلات و بِغال (ح): خچر۔ البَغّال: خچر والا، خچر ہانکنے والا۔
○ بِغالُ القَنطَرةِ: پل کے ستون۔
بغم: ١۔ بَغَمَ ـ بُغُومًا و بُغامًا و تَبَغَّمَتِ الظبيةُ: ہرن کا بہت دھیمی آواز سے بولنا، صفت: باغِمَة و مَبْغُوم۔ باغَمَهُ: کے ساتھ نرم آواز سے باتیں کرنا۔ البُغام: ہرن کی آواز۔
٢۔ بَغَمَ ـ بُغامًاتِ الناقةُ: اونٹنی کا اپنی آواز منقطع کرنا۔ ـــ الرجلُ صاحبَه: اپنے ساتھی سے غیر واضح بات کرنا۔
٣۔ البُغْمَة جمع بُغَم: عورتوں کا ہار (ترکی لفظ)۔
بغو: ١۔ بَغا ـ بَغْوًا علیه: پر ظلم و زیادتی کرنا۔ صفت: بَغُو۔ ـ الشیءَ: کو غور سے دیکھنا۔ البَغْوَة (ز): کچا پھل۔ ـ من النبات: شگوفہ جو سفید نکلا ہو۔
٢۔ بَغُونیا (ن): رنگدار پھولوں والا ایک پودا جو گرم علاقوں میں آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے۔
بغی: ١۔ بَغَی یَبْغِی بُغاءً و بُغًی و بَغْیًا و بُغْیَةً و بِغْیَةً الشیءَ: کو طلب کرنا، کا طالب ہونا، کو چاہنا۔ أَبْغاهُ الشیءَ: کو چیز کا طالب بنانا، کو کی طلب میں مدد دینا۔ کہا جاتا ہے: أَبْغِنِی ضالَّتِی: میری گمشدہ چیز کی تلاش میں میری مدد کرو۔ اِنْبَغَی: سہل اور آسان ہونا۔ کہا جاتا ہے: لاینبغی لك أن تفعل ذلك: تمہارے لئے ایسا کرنا لائق و مناسب نہیں (اس فعل کا ماضی تقریباً غیر مستعمل ہے)۔ اِبْتَغَی و تَبَغَّی الشیءَ: کو طلب کرنا، کا طالب ہونا۔ اِسْتَبْغَی الشیءَ: کو طلب کرنا، کا طالب ... القومَ فبغوه او بَغَوا له: لوگوں سے طلب کرنے میں مدد چاہنا، اور لوگوں کا اس کی مدد کرنا۔ البُغْيَة و البِغْيَة و البَغِيَّة و البُغاء: مرغوب و مطلوب شے۔ المَبْغَی و المَبْغاة: طلب کی نوعیت، طلب کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: بَغَيْتُ المالَ من مَبْغاتِهِ: میں نے مال کو مناسب ڈھب اور جگہ سے تلاش کیا۔ جیسے کہتے ہیں: اتیتُ الامر مِن مَأتاتِهِ: میں نے کام کو مناسب طریقہ سے کیا۔
٢۔ بَغَی ـ الرجلُ: حق سے ہٹ جانا۔ ـ علیه: پر دست درازی کرنا، ظلم و تعدی کرنا۔ صفت: باغٍ جمع بُغاة و بُغْیان۔ تباغی القومُ: بعض کا بعض پر ظلم و تعدی کرنا۔ البَغْی: ظلم، قصور، نافرمانی۔ ضرب المثل ہے: البَغْیُ مَرتَعُهُ وَخِیم: ظلم کی پرورش گاہ مہلک ہے۔
٣۔ بَغَی ـ: نافرمانی کرنا۔ ـ ت الأمَةُ: لونڈی کا زنا کرنا۔ باغت بغاءً و مُباغاةً الامةُ: زنا کرنا۔ البَغِیّ جمع بَغایا: زانی اور فاجر عورت، زنا کار اور فاحشہ عورت۔
٤۔ بَغَی ـ تِ السماءُ: آسمان کا سخت بارش برسانا۔ البَغْی: بہت بارش۔
٥۔ بَغَی ـ الجرحُ: زخم کا سوج جانا، خراب ہونا، پیپ سے بھر جانا۔ البَغْی: خرابی۔ کہا جاتا ہے: بَرِئَ جُرحُهُ علی بَغْیٍ: زخم تو مندمل ہو گیا مگر اندر خرابی موجود ہے۔
٦۔ بَغایا۔ مفرد بَغِیَّة۔ بغایا الجیش (ا ع): فوج کے ہراول دستے۔
○ بَغَی ـ بُغاءً ہ: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، مانگنا، چاہنا، کے لئے خواہش یا تمنا ہونا، کی خواہش کرنا، کو حاصل کرنا چاہنا، کی آرزو کرنا، کی تمنا رکھنا۔ ـ بَغْيًا علی: پر ظلم کرنا، سے غیر منصفانہ برتاؤ کرنا، کو کچلنا، کی شرمناک بے حرمتی کرنا۔ ـ: زنا کرنا، زنا کاری کرنا، غیر منکوحہ عورت سے زنا کرنا، ناجائز طور پر جنسی تعلقات رکھنا۔ یَنْبَغِی: یہ ضروری ہے، خاطر خواہ، پسندیدہ یا مرغوب ہے، یہ مناسب ہے، موزوں ہے، برمحل ہے، ٹھیک، واجب، معقول، درست یا صحیح ہے، زیبا ہے، یہ ہونا چاہیئے۔ ینبغی لَهُ: یہ اس پر واجب، لازم یا فرض ہے، یہ اس کے لئے مناسب ہے۔ ینبغی علیه: اس کو کرنا پڑے گا، اس کو کرنا ہوگا، اس کو چاہیئے۔ اِبْتَغَی ہ: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، چاہنا، ڈھونڈنا، کی خواہش کرنا، کی آرزو کرنا، کی تمنا کرنا، کے لئے محنت کرنا، جانفشانی کرنا، کا متمنی ہونا، کے لئے

جدوجہد کرنا۔ بَـغْـی: ظلم، حقوق پر چھاپہ مارنا، (کی) خلاف ورزی، ناانصافی، سخت توہین، انتہائی ظلم۔ بِغی جمع بَغَایا: طوائف، رنڈی، کسبی۔ بُـغْـیَۃ: جس کی آرزو کی جائے، خواہش، آرزو، تمنا۔ بُـغْـیَۃَ: کے مقصد سے، کی غرض سے۔ بِـغَـاء: عصمت فروشی، بدکاری، رنڈی پن۔ بُـغَـاء: خواہش، خواہش کرنا، آرزو، تمنا، کوشش۔ مَبْـغًـی جمع مَبَاغ: چکلا، رنڈی کا مکان، طوائف کا گھر۔ مَبَاغ: خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں، مطلوبہ چیز یا بات، جس چیز یا بات کی کمی ہو، مفقود چیز یا بات، جس چیز کی طمع ہو۔ اِبْـتِـغَـاء: خواہش، آرزو، تمنا۔ ابتغاءَ: کی غرض سے۔ بَاغ جمع بُغَاۃ: خواہش مند، طامع، جدوجہد کرنے والا، ظلم و ستم کرنے والا، توہین کرنے والا، خلاف ورزیاں کرنے والا، بے انصاف، ظالم، جابر فرمانروا، غاصب حکمران۔ مُبْـتَـغًـی: وہ مقصد جس کی آرزو یا تمنا ہو، (عروج حاصل کرنے کی) تمنا، خواہش آرزو، کوشش، جدوجہد، سعی، دوڑ دھوپ۔

○ بَفْتَۃ: چھینٹ، سفید سوتی کپڑا۔

○ بِفْتِیك: بڑے گوشت کا قتلہ beefsteak۔

بق: ۱۔ بَقَّ ـ بَقًّا و بُقُوقًا النبتُ: نباتات کا اگنا، پھوٹنا۔ ـــ الماءَ من فیه: پانی منہ سے بزور پھینکنا۔

۲۔ بَقَّ ـ بَقًّا الجرابَ: بوری پھاڑنا، چیرنا۔

۳۔ بَقَّ ـ بَقًّا لنا العطاءَ: بخشش کو (ہمارے لئے) وسیع کرنا۔ ـــ مالَه: مال بکھیرنا۔ ـــ بَقًّا و بُقُوقًا و اَبَقَّتِ السماءُ: آسمان کا لگاتار بارش برسانا، موسلادھار بارش برسانا۔ ـــ تِ المرأۃُ: عورت کا کثیرالاولاد ہونا۔ ـــ علی القوم: سے بہت بک بک کرنا، بہت بکواس کرنا۔ بَـقَّـقَ مـالَـه: مال کو بکھیرنا۔ اَبَقَّ ولد فلان: بہت اولاد والا ہونا۔ البَقَاق و البَقَاقَۃ من الرجال: بہت بکواسی آدمی، بکو۔

۴۔ بَقَّ ـ بَقًّا و بُقُوقًا البیتُ: گھر میں بکثرت کھٹمل ہونا۔ بَقَّقَ و اَبَقَّ البیتُ: گھر میں بکثرت کھٹمل ہونا۔ البَقّ واحد بَقَّۃ (ح): کھٹمل۔

۵۔ البقاق: گھر کا ردی اور ناکارہ سامان۔

۶۔ بَقْبَقَ بَقْبَقَۃً الرجلُ: بہت بک بک کرنا۔ ـــ الکوزُ فی الماء: پانی میں ڈوبتے وقت کوزے کا بک بک کرنا۔ ـــ تِ القدر: ہانڈی کا ابلنا۔ البَقْبَاق: باتونی، بکواسی۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ لقلاق بقباق: بہت بک بک کرنے والا آدمی۔

○ بَقّ: (اسم جنس واحد بَقَّۃ): کھٹمل۔ شجرۃ البَقّ: بوقیذار (elm) بَقَّ ـ بَقًّا: بافراط نکلنا۔ بَقَّاق: بکواس، باتونی، بکو، بچوں کی سی باتیں کرنے والا۔ بَقْبَقَ بَقْبَقَۃً: (پانی کا) قلقل کرنا، گڑگڑ کرنا، غرغر بہنا، بڑبڑانا، سرسر بہنا، بچوں کی سی باتیں کرنا، بک بک کرنا، چپڑ چپڑ باتیں کرنا۔ بَقْبَاق: بمعنی بَقَّاق۔ بَقْبُوقَۃ: (کھال، جلد کا) چھالہ، آبلہ۔

بقج: البُقْجَۃ: کپڑے وغیرہ کی گٹھری، گٹھر، پوٹلی، بقچہ، پلندہ، بنڈل۔

بقد: بَقْدُونس (ن): ایک قسم کی نبات۔ اجمود جیسی ایک چیز، جس کی پتی خوشبودار ہوتی ہے۔ اجوائن خراسانی۔

بقر: ۱۔ بَقَرَ ـ بَقْرًا ہ: کو پھاڑنا، کھولنا، وسیع کرنا۔ اَبْقَرَ المرأۃ عن جنینها: عورت کا پیٹ چیر کر اس کا بچہ نکالنا۔ اِبْتَقَرَ: پھٹنا، کھلنا، وسیع ہونا، وسط سے پھٹ جانا، شق ہو جانا۔ البَقِیر من النُّوق: وہ اونٹنی جس کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا گیا ہو۔

۲۔ بَقِرَ ـ بَقَرًا: کمزور نظر والا ہونا، بمشکل دیکھنا۔

۳۔ تَبَقَّرَ الرجلُ: وسیع العلم اور کثیر المال ہونا۔

۴۔ بَقَر (اسم جنس واحد بَقَرَۃ (مذکر و مونث دونوں کے لئے) جمع بَقَرات و بَقَر و بُقُر و اَبْقُر و اَبْقَار و اَبَاقِر و اَبَاقیر (ح): گائے، بیل۔ بقر وحشی (ح): نیل گائے، جنگلی گائے، ہرن، پہاڑی بکرا، آہو، غزال، چکارا، مرگ، جنگلی گدھا۔ بقرُ الماء: گائے کی شکل کی مچھلی۔ عیونُ البقر: ایک قسم کا انگور۔ جوعُ البقر: سخت بھوک۔ البَقَّار: گائے والا، گائے کا چرواہا۔ الباقِر و الباقور و البَیْقُور: گایوں کا گلہ، ریوڑ (اسم جمع)۔ فتنۃ باقِرَۃ: الفت مٹانے والا بڑا صدمہ۔ البَقِیرَۃ و البَقِیر: عورتوں کا بغیر آستین والا قمیص۔ البُقَر و البُقَّاری: جھوٹ، مصیبت۔ کہا جاتا ہے: جاءَ فلانٌ بالصُّقَر و البُقَر او الصُّقَّاری و البُقَّاری: فلاں شخص جھوٹ اور مصیبت لایا۔ البُقَّیری: بچوں کا ایک کھیل۔

○ بَقَرَ ـ بَقْرًا ہ و اَبْقَرَ ہ: کو پھاڑ کر کھول دینا، کاٹ کر زور سے کھولنا، کاٹ کر کھول دینا۔ بَقَر: (اسم جنس واحد بقرہ): بیل، گائے، ڈھور ڈنگر، مویشی جمع بقرات: گائے۔ بَقَرِی: بیل کی طرح، ڈنگر جیسا، گوکا۔ بَقَّار جمع بَقَّارَۃ: گائے چرانے والا، گوالا، چرواہا۔

بقس: البَقْس واحد بَقْسَۃ (ن): ایک جنگلی درخت جس کی لکڑی قیمتی ہوتی ہے۔

۲۔ البقسمات: کیک کی ایک قسم (فارسی لفظ)۔

○ بُقْس: صندوق، پیٹی، بکس، بکسا، صندوق بنانے کی لکڑی۔

○ بُقْسُمات: بسکٹ، رس (بسکٹ)، توس کے بسکٹ جو خوب سِکے ہوئے ہوں۔

○ بُقْشَۃ: یمن کا تانبے کا سکہ۔

○ بقشیش جمع بقاشیش: بخشش، انعام، ٹپ، مالی تحفہ یا ہدیہ۔

بقط: ۱۔ بقطَ ـ بَقْطًا متاعَه: سفر کے لئے اپنا سامان جمع کرنا۔

۲۔ بَقَطَ ـ بَقْطًا الشیءَ: کو متفرق کرنا۔ ـــ فلانًا بستانَه: کو اپنا باغ تہائی یا چوتھائی پیداوار کی شرط پر دینا۔ بَقَّطَ الشیءَ: کو بکھیر دینا، کو متفرق کرنا۔ البَقَط: متفرق جماعت، کاٹتے وقت گری ہوئی کھجور۔ البُقْطَۃ: زمین کا ایک حصہ۔

۳۔ بَقَّطَ ہ فی الجبل: کو پہاڑ پر چڑھانا۔ تَبَقَّطَ الشیءَ: کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا۔ ـــ الخبرَ: خبر کو تھوڑا تھوڑا حاصل کرنا۔

بقع: ۱۔ بَقَعَ ـ بَقْعًا و بُقُوعًا: جانا۔ آپ کہتے ہیں: ما ادری این بقع؟: میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اِنْبَقَعَ: تیز جانا۔

۲۔ بَقِعَ ـ بَقَعًا فلانٌ بالشیءِ: پر اکتفا کرنا۔

۳۔ بَقِعَ ـ بَقَعًا الطیرُ: پرندہ کا مختلف رنگوں والا ہونا صفت: اَبْقَع مونث بَقْعاء جمع بُقْع۔ اُبْتُقِعَ لونُه: خوف یا غم سے کسی کا رنگ متغیر ہو جانا۔ اُمْتُقِعَ: میم سے فصیح تر ہے۔ الأبْقَع مونث بَقْعاء جمع بُقْع: سیاہ و سفید داغوں والا۔

۴۔ بَقِعَ ـ بَقَعًا المستسقی: پانی مانگنے والے، کے جسم پر پانی گرنے سے اس کے کچھ اعضاء کو تر کر دینا۔ بَقِعَ الثوبُ: کپڑے کو رنگتے وقت اس میں سفید سفید داغ چھوڑ دینا۔ تَبَقَّعَ: کپڑے میں رنگتے وقت سفید سفید داغ رہ جانا۔ تَبَقَّعَتِ الثیابُ: کپڑوں کا بھیگ کر جگہ جگہ سے گیلا ہونا۔

۵۔ البُقْعَۃ و البَقْعَۃ جمع بقاع و بُقَع: ٹکڑا، زمین کا ایک خطہ یا قطعہ، مرتبہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ حسنُ البقعۃ عند الامیر: فلاں شخص حاکم کے ہاں اچھا مرتبہ رکھتا ہے۔ البُقْعَۃ جمع بِقاع و بُقَع: دلدل۔ البَقِیع: مختلف درختوں کی جڑوں والی جگہ۔ ابنُ بقیع: کتا۔ الباقِعَۃ جمع بَوَاقِع باقِع: کا مونث: پرندہ جو شکار ہونے کے ڈر سے دلدلوں کا رخ کرے، زیرک شخص جسے فریب نہ دیا جا

سکے۔ کہا جاتا ہے: ما فلانٌ إلا باقِعَةٌ من البَوَاقِع: فلاں شخص بڑا چالاک ہے۔ بَقْعَاءُ: سَنَة بَقْعَاء: سر سبزی وخشک سالی والا سال۔ الأَبْيَقَع: وہ سال جس میں بارش کم ہو۔

○ بَقَّعَ ہ: پرچتی ڈالنا، داغ یا نشان ڈالنا، پردھبے ڈالنا، کو داغ دار کرنا۔ تَبَقَّعَ: داغدار ہو جانا، دھبے دار ہونا۔ بُقْعَة جمع بُقَع و بِقَاع: داغ، دھبہ، جگہ، موقع، قطعہ زمین، ٹکڑا، قطعہ، بقعہ۔ أَبْقَع: داغ دار، دھبے دار، چتلا۔ باقِعَة جمع بَوَاقِع: شرارت بھرا کتا، زیرک شخص۔

بقل: ۱۔ بَقَلَ ـ بَقْلاً و بُقُولاً و أَبْقَلَ: ظاہر ہونا۔ ـــ نابُ البعير: اونٹ کے کیلے نکلنا۔ ـــ وجهُ الغلام: لڑکے کے چہرے پر سبزہ نکل آنا۔ بَقَّلَ وجــهُ الغلام: لڑکے کے چہرے پر سبزہ کا آغاز ہونا۔

۲۔ بَقَلَ ـ بَقْلاً و بُقُولاً و ابْقَلَ المكانُ: جگہ کا ترکاری یا سبزی اُگانا۔ صفت: بَاقِل و بَقِيل و بَقِل۔ ـ لِبَعِيرِهِ بَقْلاً: اپنے اونٹ کے لئے ساگ پات جمع کرنا۔ أَبْقَلَ القومُ: لوگوں کا سبزی پانا یا لوگوں کے مویشیوں کا سبزی چرنا۔ تَبَقَّلَ و ابْتَقَلَ: سبزی کی طلب میں نکلنا۔ ـــ الماشيةُ: مویشی کا سبزی چرنا۔ البَقْل جمع بُقُول (ن): سبزی، ترکاری واحد بَقْلَة۔ بَقْلَةُ الحَمْقَاء و بقلة الزهراء و بقلة اللَّيِّنَة: خرفہ کا ساگ (جسے فرفسین بھی کہا جاتا ہے)۔ البَقْلَةُ البَارِدَة: عشق پیچہ۔ بقلة الانصار: کرم کلہ۔ البَاقِلا و البَاقِلَي و الباقِلي: لوبیا۔ ارضٌ بَقِلَةٌ و بَقِيلَةٌ و بَقَّالَة و مَبْقَلَة: سبزی والی زمین۔ البَقَّال: سبزی فروش۔ المَبْقَلَة: سبزی والی جگہ۔

۳۔ البَـقْـلاوَى: شہد باداموں یا پستہ سے تیار کردہ پیسٹری (ترکی لفظ)۔

۴۔ البُوقَال و الباقول جمع بَوَاقِيل: بے دستہ والا کوزہ، مٹی کی دوات (یونانی لفظ)۔

○ بَقَلَ ـ بَقْلاً: (پودے کا) پھوٹنا، شاخیں نکالنا، اُگنا، سوئے نکالنا۔ بَقْل: (اسم جنس واحد بَقْلَة) جمع بُقُول و أَبْقَال: جڑی بوٹیاں، سبزی، ترکاری، جڑی بوٹیوں جیسے پودے خصوصاً پھلیاں، دانے، تخم، دالیں اور ترکاری۔ الفصيلة البقلية: پھلیاں۔ البقلة الباردة: لوبیا۔ البقلة الحمقاء: لوبیا، باقلہ، خرفہ۔ بقلة الخطاطيف: پت پاپڑہ، شاہترہ۔ بَقَّال جمع بَقَّالون و بَقَّالة: سبزی والا، کنجڑا، پنساری، کریانہ فروش۔ بِقَالَة: پنساری کا کاروبار۔

بقم: بَقَمَ الثوبَ: کپڑے کو بَقَّم سے سرخ رنگنا۔ البَقَّم: ایک قسم کا درخت جس کی لکڑی کپڑے رنگنے کے کام آتی ہے۔ البَقَامَة من الصوف: دھنتے وقت گر جانے والی روئی جسے کاتا نہ جا سکے، کمزور اور کم عقل شخص۔

○ بَقَّم: برازیلی لکڑی (brazilwood)

بقا: بَقَا ـ بَقَاوَةً و بَقَى ـ بَقْيا فلاناً بعينه: کی طرف دیکھنا۔ ـ ہ: کا انتظار کرنا۔

بقى: بَقِيَ ـ بَقَاءً ـ و بَقَى ـ بُقِيًّا: رہنا، ثابت رہنا۔ أَبْقَى ہ: کو باقی رکھنا۔ أَبْقَى عليه: پر رحم کرنا، مہربانی کرنا۔ بَقَّى ہ: کو ثابت کرنا، کو باقی رکھنا۔ تَبَقَّى: رہنا، ثابت رہنا۔ ـــ ہ: کو ثابت کرنا، باقی رکھنا۔ اِسْتَبْقَى ہ: کو ثابت کرنا، باقی رکھنا۔ ـــ منه: کا کچھ حصہ چھوڑ دینا۔ الباقي مونث الباقية جمع الباقيات و البَوَاقِي: ثابت، باقی، اللہ تعالیٰ۔ البَقْوَى و البُقْوَى و البُقيا و البَقِيَّة جمع بَقَايا: باقی ماندہ، باقی۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ بقيةُ قومه: فلاں شخص اپنی قوم کا چیدہ شخص ہے۔ المَبْقَى جمع المَبَاقِي: بقا، زندگی۔

○ بَقِيَ ـ بَقَاءً: رہنا، ٹھہرنا۔ ـ على: کسی حالت یا شرط پر مسلسل ہونا، حالت یا شرط برقرار رکھنا۔ ـــ: پیچھے رہ جانا، بچ جانا، بچ رہنا۔ ـــ: جاری رہنا، رہنا (جس کے بعد مضارع یا اسم مفعول یا اسم فاعل آئے)، کو کرتے رہنا، ہو جانا۔ لم يبق طفلا: اب وہ بچہ نہیں رہا۔ بَقَّى ہ: کو چھوڑنا، بچانا، بچا رکھنا، پیچھے چھوڑ دینا۔ أَبْقَى ہ: کو روک لینا، ٹھہرانا، رکھنا، رہنے دینا، پابند خدمت کرنا، بلا تبدیلی چھوڑنا، ویسے ہی رہنے دینا یا چھوڑنا، برقرار رکھنا، قائم رکھنا، محفوظ رکھنا۔ ـ على: کسی شخص یا چیز کو چھوڑے بغیر چھوڑنا یا رہنے دینا، کو بچانا، (جیسے) کی جان بچانا، کو چھوڑ دینا، پر رحم کرنا۔ تَبَقَّى على: کسی حالت یا کیفیت میں رہنا، ٹھہرنا، جاری رہنا، چھوڑا جانا۔ ـــ: چھوڑ دیا جانا، بچ جانا، بچ رہنا۔ اِسْتَبْقَى ہ: کو ٹھہرانا، کو ٹھہرنے کے لئے کہنا، روکنا، روکے رکھنا، روکنا، بٹھائے رکھنا، منتظر رکھنا۔ ـ ہ/ہ: کو بچانا، کی حفاظت کرنا، سے درگزر کرنا۔ ـــ ہ: کو محفوظ کرنا، کی حفاظت کرنا، رکھنا، قائم رکھنا، اپنے پاس رکھنا، کو مستقبل کے لئے جمع رکھنا، حفاظت کے لئے رکھنا، کا ذخیرہ کرنا۔ بَقِيَّة جمع بَقَايا: باقی، بقیہ، بچا ہوا حصہ، پس ماندہ، رہا سہا، بچا کھچا، فضلہ، تلچھٹ۔ بقية الدُّوَل: باقی ممالک، بقیہ ملک۔ البقية الباقية: آخری بقیہ۔ بَقَاء: رہنا، ٹھہرنا، دیر تک رہنا، باقی رہنا، برقرار رہنا، قائم رہنا، تسلسل، استمرار، دوام، ہمیشگی، مدت، زمانہ، عرصہ، میعاد، باقی رہنا، باقی بچ جانا، بقا، زندگی کے بعد زندگی کا تسلسل، حیات جاوداں، ابدی زندگی، زندگی، وجود، پائداری دار البقاء، اخروی زندگی۔ أَبْقَى: زیادہ پائدار، زیادہ دائمی، زیادہ دیرپا، زیادہ مستقل، زیادہ استوار، زیادہ مستحکم، بہتر محفوظ شدہ، حفاظت کرنے والا، نسبتاً طویل استعمال کا باعث۔ ابقاء: اجرا، استمرار، تسلسل، روکنا، روکے رکھنا، برقرار رکھنا، قائم رکھنا، چالو رکھنا، تحفظ، بچانا، بچائے رکھنا، محفوظ رکھنا، حفاظت۔ ابقاء الحالة على ما كانت عليه: موجودہ حالت کو برقرار رکھنا۔ بَاقٍ: ٹھہرا ہوا، باقی، بقیہ، بچا ہوا، باقی (حساب کی اصطلاح میں)، پائیدار، جاری، مستقل، غیر منقسم، بچ جانے والا، ابدی، دائمی، لازوال۔ خدائے لم یزل۔ الباقياتُ الصالحات: نیک کام۔ مُبَقًّى: بچا کھچا، بقیہ، باقی۔

بلک: ۱۔ بَكَّ ـ بَكًّا الرجلُ: محتاج ہونا۔ ـ الشيءَ: کو پھاڑنا، فسخ کرنا۔ ـ الدابّةَ: جانور کو چلا چلا کر تھکا دینا۔ ـــ ہ: کی مزاحمت کرنا۔ تَبَاكَّ القومُ: لوگوں کا ہجوم کرنا، بھیڑ کرنا۔ ـ الشيءُ: چیز کا تہ بتہ ہونا۔

۲۔ البَاكُّ: احمق، بے وقوف۔

۳۔ بَكْبَكَ و تَبَكْبَكَ القومُ عليه: پر لوگوں کا ہجوم کرنا۔ البَكْبَاكُ من الجموع: بہت۔ ـــ من الرجال: سخت مزاج آدمی۔

بکا: ۱۔ بَكَأَ ـ و بَكُؤَ ـ بُكُوءًا و بَكَاءَةً و بَكَاءً و بُكَاءً و ـــ ت البئرُ: کنویں کا پانی کم ہونا۔ ـ ت الناقةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔ ـ ت العينُ: آنکھ کا آنسو کم نکلنا۔ صفت: بَكِيء و بَكِيئَة و بَكِيّ و بَكِيَّة جمع بكاء و بَكَايا: کہا جاتا ہے: ايْدٍ بِكاء: کم بخشش دینے والے ہاتھ۔ أَبْكَأَ الدرَّ أي اللبنَ: دودھ کو کم پانا۔

۲۔ بَكِيَ ـ بَكًّا: اپنی حاجت نہ پانا۔

۳۔ البَكّ و البكا واحد بَكَاة (ن): آبی سلاد جیسا ایک پودا۔

○ بلک: بے جمع بَكَوَات و بَهَوات: شاہزادگی کا لقب۔ بَكَوِيَة: بے کا رتبہ۔ بَكِيء جمع بِكَاء: تھوڑا رکھنے یا دینے والا، کفایت شعار

(لفظوں کا)۔

○ بِکابِین: چہا۔ اسناف (تیز اڑنے والا ایک پرندہ)۔

○ بَکَالَورِیَا: فارغ التحصیل کی ڈگری۔ بَکالُورِیُوس: فارغ التحصیل (جس نے یونیورسٹی کی پہلی ڈگری حاصل کی ہو) بیچلر bachelor جیسے بی اے، بی ایس سی۔

○ بِکْبَاشِی: میجر (ملٹری کا ایک عہدہ)۔

بکت: ۱۔ بَکَتَ ـ بَکْتًا ہ: کو تلوار یا لاٹھی سے مارنا، پر دلیل و حجت میں غالب آنا۔ کہا جاتا ہے: بَکَتَہُ حَتّی أسْکَتَہُ: وہ اس پر حجت میں ایسا غالب آیا کہ آخر اس کو خاموش کر دیا۔ بَکَّتَہُ: بمعنی بَکَتَہُ: نیز کو زجر و توبیخ کرنا، سرزنش کرنا، اسی سے ہے: تبکیتُ الضمیر: ضمیر کی سرزنش۔

۲۔ بَکْتِیرِیَة (طب): جراثیم (واحد جرثومہ bacteria۔) البکتریُولُوجیا: علم جراثیم، جراثیمیات، جرثومیات bacteriology۔

○ بَکْتِیرِی: جراثیمی، جراثیم کا، جراثیم کے باعث bacterial۔

بکر: ۱۔ بَکَرَ ـ بُکُورًا علیہ و الیہ: کے پاس صبح کے وقت آنا، جانا۔ ـ فی الشیءِ: کو صبح کے وقت کرنا۔ أبْکَرَ فلانًا: کے پاس صبح کے وقت جانا، آنا۔ بَکَّرَہُ: کے پاس صبح کے وقت جانا آنا۔ ـ ہ علیہم: کو صبح کے وقت ان کے پاس بھیجنا۔ بَاکَرَہُ: کے پاس علی الصبح آنا۔ اِبْتَکَرَ فلانًا و علی فلانٍ: کے پاس صبح کے وقت آنا، جانا۔ البَاکِر (فا): اتاہ بکرًا: وہ اس کے پاس صبح سویرے آیا۔ البُکْرَة: صبح۔ آپ کہتے ہیں: اتیتُہُ بکرة: میں اس کے پاس صبح سویرے آیا۔

۲۔ بَکَرَ ـ بُکورًا: آگے بڑھنا، پیش رفت کرنا۔ بَکِرَ ـ بَکَرًا إلی الشیءِ: کی طرف جلدی کرنا۔ أبْکَرَ و بَکَّر: آگے بڑھنا، جلدی کرنا۔ تَبَکَّرَ: آگے بڑھنا۔ الضربةُ البِکر: تلوار کی کاری یا کام تمام کرنے والی چوٹ۔ البَکِیر و البَاکُور و البَکُور: اپنے وقت سے پہلے آنے والی ہر چیز۔ المِبْکَار جمع مَبَاکر: ارضٌ مِبْکَار: جلد اگانے والی زمین۔

۳۔ بَکَّرَ المصلِّیُّ: نماز کے لئے شروع وقت میں آنا۔ بَاکَرَہُ: کسی چیز کے پہلے احوال میں اس پر سبقت لیجانا۔ اِبْتَکَرَ الفاکہةَ: پہلا پھل کھانا۔ ـ: کے پہلے حصہ پر قابو پانا۔ اسی سے ہے: ابتکار المعانی و غیرھا: معانی وغیرہ کے پہلے حصہ پر قابو پانا۔ کہا جاتا ہے: معنی او فن مُبْتَکر: غیر مانوس معنی یا فن۔ البِکْر جمع أبْکار: مذکر و مونث کیلئے: ماں باپ کا پہلا بچہ، ہر چیز کا اول، ہر کام جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو۔ نارٌ بِکْرٌ: شروع میں جلائی ہوئی آگ۔ کَرْمٌ بِکْرٌ: انگور کا پہلا دانہ۔ البَاکُورَة جمع بَوَاکِیر و باکورات: پہلا میوہ ہر چیز کا اول۔ البَکِیر و البَاکُورُ و البَکُور: موسم کی پہلی بارش۔ المُبْکِر (فا): موسم بہار کی پہلی بارش۔ البَکِیرَة جمع بَکَائِر: پہلا پکنے والا پھل یا کھجور کا درخت۔ المِبْکَار جمع مَبَاکِیر: بمعنی البکیرة۔ البِکْرِیَّة و البُکُورِیَّة: پہلی اولاد پہلی اولاد کی خاصیت یا حقوق۔

۴۔ البِکر جمع أبْکار: کنواری، جوان گائے۔ الدُّرَّة البِکر: در ناسفتہ۔ خِلٌّ بِکْرٌ: تیز سرکہ۔ البَکْر جمع أبْکُر و بُکْران و بِکار، و بِکارَة مونث: بَکْرَة جمع بِکار: جوان اونٹ۔ البَکَارَة: دوشیزگی، کنوار پن۔ البَکْرَة: جماعت۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا علی بکرة أبیہم: وہ سب کے سب آئے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ البَکَرَة جمع بَکَر و بَکَرات: چرخی (کہا جاتا ہے: والبکرات شرُّھُنَّ الصائمة: سب سے بری چرخی وہ ہے جو نہ گھومے)۔ لکڑی کا آلہ جس پر دھاگے لپیٹے جاتے ہیں، پھرکی، گٹی۔

○ بَکَرَ ـ بُکُورًا: علی الصبح سفر پر روانہ ہونا، صبح سویرے اٹھنا۔ ـ إلی: کے پاس صبح سویرے آنا، کسی جگہ صبح کو پہنچنا۔ بَکَّر بمعنی بَکَرَ نیز بَکَّرَ فی/ب: (جس کے بعد مصدر ہو) کو صبح سویرے کرنا، جلدی کرنا، قبل از وقت کرنا، وقت سے پہلے کرنا۔ بَاکَرَہُ: کے آگے ہونا، سے پہلے کرنا۔ أبْکَرَ بمعنی بَکَّرَ۔ اِبْتَکَرَ ہ: کو سب سے پہلے لینا، کا سب سے پہلے آغاز کرنا۔ ـ ھا: کنواری کا کنوار پن ختم کرنا۔ ـ ہ: کو ایجاد کرنا، کی تخلیق کرنا، کو وجود میں لانا، کا موجد یا مخترع ہونا، کو شروع کرنا۔ بَکْر جمع أبْکُر و بُکْران: جوان اونٹ۔ بِکر جمع أبْکار: پہلا بچہ، سب سے بڑا (بچہ)، بے نظیر، انوکھا، نیا، باکرہ، ناکتخدا، دوشیزہ کی طرح۔ بِکْرِی: پہلا بچہ، پہلا۔ بِکْرِیَّة: کسی خاندان میں سب سے پہلے پیدا ہونے کی حقیقت۔ پہلوٹھا پن۔ بَکْرَة و بَکَرَة جمع بَکَر و بَکَرات: پھرکی، گٹی، چرخی، ریل (reel) سپول (spool)، کوائل (coil)۔ خیط بکرة: دھاگا۔ علی بَکْرَةِ أبیہم، عن بکرة ابیہم اور عن بکرتہم: بلا استثناء سب، وہ سب کے سب، سب اکٹھے۔ خرجت الجماھیر عن بکرتھا: عوام الناس ایک آدمی کی طرح نکلے۔ بُکْرَة جمع بُکَر: علی الصبح، صبح سویرے۔ بُکْرَةً: علی الصبح، کل (آئندہ)، اگلے دن۔ بَکِیر: جلدی آنے والا، جلد، قبل از وقت، قبل از وقت نشو و نما پانے والا۔ بَکُور و بَاکُور: جلدی آنے والا، جلد، قبل از وقت، قبل از وقت نشو و نما پانے والا۔ بُکُور: قبل از وقتی قبل از وقت آمد۔ بکوری فی العَود: میری علی الصبح واپسی۔ بَکَارَة: پاکدامنی، کنوار پن، دوشیزگی۔ بَکَّارَة: چرخی۔ بَکَّارَة مرکبة: چرخیوں کا جوڑا، گھرنی کوئی چیز اٹھانے کا آلہ جو رسیوں اور چرخیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بُکُورَة اور بُکُورِیة: جیٹھانی: سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچہ کا جانشینی کا حق۔ باکُورَة جمع بَوَاکِیر: پہلے شخص، پہلے نتائج، پہلے پھل، شروع، آغاز، شروع، ابتدائی، پہلا جمع بَوَاکِیر: پہلے نشان، علامات، ابتدائی علامات، نقباء، پیش خیمے۔ باکورة الفواکہ: پہلا پھل۔ کان باکورة أعمالہ: اس نے جو کام سب سے پہلے کیا وہ تھا۔ ـ أبْکَر: صبح سویرے اٹھنے والا۔ مِبْکَار: قبل از وقت نشو و نما پانے والا۔ اِبْتِکَار جمع ابتکارات: انوکھی چیز، انوکھی بات، عجیب شے، ایجاد، اختراع، جدت، بدعت، تخلیق، ابتداء، آغاز، پہلی پیداوار، ابتدائی کارروائی، تخلیقیت، تخلیقی قوت جمع اِبْتِکارات: (خصوصاً) فیشن کی تخلیقات، فیشن کے ڈیزائن۔ باکِر: جلد، قبل از وقت۔ باکِرًا: صبح کو، علی الصبح۔ فی الصباحِ الباکِر: علی الصبح، صبح سویرے۔ إلی باکِر: کل تک۔ بَاکِرَة جمع بَوَاکِر: پہلے شخص، پہلی پیداوار، پہلے پھل، پہلی سبزیاں: پہلی علامات، پہلے نشان، نقباء، پیش خیمے۔ مُبَکِّر: جلدی کرنے والا، جلد۔ مُبَکِّرًا: علی الصبح، صبح سویرے، مُبْتَکِر: خالق، تخلیق کنندہ، تخلیقی، موجد، مخترع۔ مُبْتَکَرٌ: نو ایجاد، نیا، انوکھا، نرالا، عجیب، اولین، قدیم ترین، تخلیقی جمع مُبْتَکَرات: تخلیق خصوصاً فیشن کی تخلیق، ایجاد۔ ثوبٌ مُبْتَکَرٌ: طبع زاد ڈیزائن، ماڈل، لباس کی تخلیق۔

○ بَکْرَج جمع بَکَارِج: کیتلی، قہوہ دانی، کافی کا برتن۔

بکس: بَکَسَہُ ـ بَکْسًا: کو مغلوب کرنا۔

بکع: بَکَعَ ـ بَکْعًا ہُ: سے بدخلقی سے پیش آنا، کے

بدن کے مختلف حصوں پر سخت چوٹیں لگانا، کو سرزنش کرنا۔ بَکَّعَ ہٗ: کو کاٹنا، خاموش کرنا۔ الأَبْکَعُ من الناس: ہاتھ کٹا آدمی۔

بکل: ۱۔ بَکَلَ ۔ بَکْلاً و بَکَّلَ الشیءَ: کو ملانا، خلط ملط کرنا۔ ۔۔۔ الرجلُ: آٹا، ستو، گھی یا زیتون ملا کر کھانا کھانا یا تیار کرنا۔ تَبَکَّلَ فی الکلام: گفتگو میں گڑبڑانا۔ البَکالۃ و البَکِیلَۃ (ط): ستو، گھی یا تیل میں ملا ہوا آٹا۔

۲۔ بَکَلَ ۔ الازرارَ: بٹنوں کو ان کے کاجوں میں داخل کرنا، بٹن بند کرنا (عام زبان میں)۔ البُکْلَۃ: کاج، بکسوا، بکلس۔

۳۔ تَبَکَّلَ الرجلُ: مرفہ الحالی کی زندگی بسر کرنا، آسودہ حال ہونا۔ ۔۔۔ الشیءَ: کو غنیمت کے طور پر لینا۔ اِبْتَکَلَ الشیءَ: کو غنیمت جان کر لینا۔ البَکِیلَۃ: غنیمت۔

۴۔ تَبَکَّلَ ہٗ و علیہ: بر گالی گلوچ اور مار پیٹ سے غالب آجانا۔

۵۔ تَبَکَّلَ فی مشیتِہٖ: ناز سے چلنا۔ البِکْلَۃ جمع بِکَل: حال، ہیئت، لباس، طبیعت۔

۶۔ بکالوریا: ثانوی کے آخری امتحان میں کامیاب ہونے پر طلبہ کو ملنے والی ڈگری۔

۷۔ البَکْلِیك: حکومتی متعلقات اور غیر منقولہ جائیدادیں۔ اصل میں بے کے خصوصی اختیار (ترکی لفظ)۔ خزانہ، ریاست، حکومت۔

○ بَکَّلَ ہٗ: کو بکلس یا بکسوا لگانا، بٹن لگانا، (ہاتھ) باندھنا، (بازو) ایک دوسرے پر رکھنا۔ بُکْلَۃ جمع بُکَل و بُکْلات: بکلس، بکسوا۔

○ بکلاہ: کاڈ (مچھلی)۔

○ بکَلورِیُوس: فارغ التحصیل (علمی سند)۔

بکم: بَکِمَ ۔ بَکَمًا و بَکَامَۃً: گونگا ہونا۔ صفت: أَبْکَم جمع بُکْم و بَکِیم جمع بُکْمان۔ بَکُمَ ۔ بَکَامَۃً: جان بوجھ کر چپ رہنا۔ تَبَکَّمَ الکلامُ علیہ: بول نہ سکنا، گفتگو نہ کرسکنا۔

○ بَکِمَ ۔ بَکَمًا و بکامَۃً: گونگا ہونا۔ بَکُمَ ۔ بکامَۃ: چپ ہونا، خاموش ہونا، اپنی زبان روکنا۔ أَبْکَمَ ہٗ: کو خاموش کرنا۔ تَبَکَّمَ: خاموش ہو جانا، گونگا ہو جانا۔ بَکَم: گونگا پن۔ أَبْکَم مونث بَکْماء جمع بُکْم: گونگا۔

بکی: بَکَی ۔ بُکاءً و بُکًی: رونا صفت: باكٍ جمع بُکاۃ مونث باکِیَۃ جمع باکِیات و بَوَاكٍ۔ ۔۔۔ المیتَ: میت پر رونا، بین کرنا۔ بَکَّی المیتَ: میت پر رونا، بین کرنا۔ ۔۔۔ الرجلَ: کو رلانا۔ أَبْکَی الرجلَ: کو رلانا۔ تَبَاکَی: بناوٹی رونا رونا۔ اِسْتَبْکاہٗ: کو رونے کے لئے کہنا، کو رلانا۔ البَکّاء و البَکِیّ: بہت رونے والا۔ التِّبْکاء و التَّبْکاء: رونا یا رونے کی کثرت۔ المَبْکَی جمع مَبَاكٍ: رونے کی جگہ۔ حائطُ المبکی: دیوار گریہ: قدس شریف میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی بچ رہنے والی ایک دیوار، جس کی یہودی زیارت کرتے ہیں اور اس کے قریب روتے ہیں۔

○ بَکَی ۔ بُکاءً و بُکًی علی: پر رونا، گریہ وزاری کرنا۔ ۔۔۔ ہٗ: کا ماتم کرنا، پر آہ و بکا کرنا، کا افسوس کرنا۔ بَکَّی و أَبْکَی ہٗ: کو رلانا۔ اِسْتَبْکَی ہٗ: کو رلانا، رلا دینا۔ بَکّاء: اکثر روتے رہنے کا عادی، اشکبار، آبدیدہ، بات بات پر رو دینے والا۔ باکِیَۃ جمع بَوَاكٍ: گریہ وزاری کرنے والی، کرایہ کی سوگ منانے والی، ماتم کرنے والی۔ مُبْكٍ و مُبَكٍّ: آنسو آور، اشکبار، آبدیدہ، غمگیں، افسوسناک، شرمناک۔

○ بکین: پیکنگ: چین کا دارالحکومت۔

بَل: حرف عطف، اپنے سے پہلے کہی ہوئی بات سلب کر کے اسے بعد کی کہی ہوئی بات سے متعلق کرتا ہے۔ یوں ادعا اور امر کے بعد کنارہ کشی کے لئے آتا ہے جیسے قطف لا أزھار بل الاثمار میں۔ جس کا معنی ہے: اس نے پھول نہیں توڑے بلکہ پھل توڑے۔ نفی اور نہی کے بعد تصحیح کے لئے بھی آتا ہے جیسے: ماذھب زیدٌ بل عمرو: زید نہیں گیا بلکہ عمرو گیا۔ اس جملہ میں زید کے جانے کی نفی کی گئی ہے اور جانے کا عمل عمرو کے متعلق ثابت کیا گیا ہے۔

بلّ: ۱۔ بَلَّ ۔ بَلَلًا و بَلًّا و بُلُولاً من مرضہ: بیماری سے صحتیاب ہونا، تندرست ہونا۔ اَبَلَّ من مرضہ: بیماری سے صحت یاب ہونا۔ اِبْتَلَّ و تَبَلَّلَ و اِسْتَبَلَّ من مرضہ: بیماری سے صحت یاب ہونا۔ البِلّ: شفاء، صحت یابی، صحت۔ الأَبَلّ: زیادہ مناسب و موافق۔ کہا جاتا ہے: لاشیء اَبَلُّ للجسم مِن کذا: جسم کے لئے اس سے زیادہ کوئی چیز زیادہ مناسب و موافق نہیں۔

۲۔ بَلَّ ۔ بَلًّا و بِلَّۃ و بَلَلاً یدہ: کو دینا۔ البِلّۃ: رزق، خیر۔

۳۔ بَلَّ ۔ بَلَلاً و بَلالاً بکذا: کو حاصل کرنا، جیتنا، پالینا۔ کہا جاتا ہے: اذا بلّت بقائمہ یدی: جب میرا ہاتھ اس کے قبضہ تک پہنچے ... مباح کہا جاتا ہے: لا احلّھا لمغتسل وھی لشارب حِلّ و بِلّ: میں اس کو نہانے والے کے لئے حلال نہیں ٹھہراتا، البتہ پینے والے کے لئے وہ حلال و مباح ہے۔

۴۔ بَلَّ ۔ بَلًّا فی الأرض: زمین میں جانا۔ اَبَلَّ ہٗ فی الارض: کو زمین میں لے جانا۔ ذو بِلَّی و بِلَّی و بِلِّیان: دور افتادہ غیر معلوم جگہ۔ کہا جاتا ہے: ھو بذی بِلَّی: وہ ایک دور افتادہ نامعلوم جگہ پر ہے۔

۵۔ بَلَّ ۔ بَلًّا و بَلَّۃً و بَلَلاً ہٗ بالماء: کو پانی سے تر کرنا۔ ۔۔۔ بُلُولاً تِ الریحُ: سرد ہوا کا چلنا۔ بَلَّلَ الثوبَ: کپڑے کو تر کرنا۔ تَبَلَّلَ و ابْتَلَّ: تر ہو جانا۔ اَبَلَّ العودُ: لکڑی میں تری کا ہونا۔ ۔۔۔ الشجرُ: درخت کا پھل دار ہونا۔ البِلَّۃ: تری۔ البَلَّۃ: جوانی کی تروتازگی۔ ۔۔۔ من الریاح: مرطوب ہوا۔ کہا جاتا ہے: جاء فلانٌ فلم یأتنا بِھَلَّۃٍ ولا بَلَّۃ: وہ کوئی خوشی اور خیر لے کر نہیں آیا۔ ما اصاب ھَلَّۃً ولا بَلَّۃً: اسے کچھ نہیں ملا۔ البُلالَۃ: تری، اتنی مقدار جس سے کوئی چیز تر کی جا سکے۔ البَلال و البِلال و البُلال: تری، پانی، دودھ یا پانی کی اتنی مقدار کہ اس سے حلق تر ہو جائے۔ البَلِیل و البَلِیلَۃ: ٹھنڈی مرطوب ہوا۔ البَلّان: حمام کا خدمت گار، حمام میں نہلانے والا۔ ۔۔۔ جمع بلّانات: حمام۔

۶۔ البِلّ: چالاک۔ کہا جاتا ہے: ھو بِلُّ أَبْلال: وہ چالاکوں کا چالاک ہے۔ الأَبَلُّ مونث بَلّاء جمع بُلّ: سخت کنجوس، بدکار۔ المِبَلّ: مستقل۔ خصم مِبَلّ: وہ مستقل جھگڑالو ہے۔ البُلْلَۃ: ہیئت، حال۔ کہا جاتا ہے: طویتُ السقاءَ علی بُلْلَتِہٖ و بَلَلَتِہٖ: میں نے مشک کو لپیٹ لیا جب کہ وہ تر ہی تھی۔ طویتُ فلاناً علی بَلَلَتِہٖ بُلُلَتِہٖ و بُلْلَتِہٖ و بَلَّتِہٖ و بُلُوِّہٖ و بُلالَتِہٖ: میں نے فلاں شخص کو اس کے عیب اور برائی کے باوجود برداشت کیا۔ البُلالَۃ: تھوڑی سی چیز۔ البلّان و احدہ بلّانۃ (ن): ایک خاردار پودا۔ جس زمین پر اگتا ہے وہ زراعت کے قابل نہیں رہتی۔

۷۔ بَلْبَلَ بَلْبَلَۃً و بِلْبالاً القومَ: لوگوں کو بھڑکانا، غم میں مبتلا کرنا۔ البَلْبال: سخت غم۔

۸۔ بَلْبَلَ بَلْبَلَۃً و بِلْبالاً الألسنۃ: زبانوں کو خلط ملط اور گڑبڑ کرنا۔ ۔۔۔ الآراءَ: رایوں کو خراب کرنا، آراء کو بگاڑنا۔ ۔۔۔ الأمتعۃ: سامان بکھیرنا۔ تَبَلْبَلَ: بھڑکنا، غم میں مبتلا ہونا۔ تَبَلْبَلَتِ الألسُنُ فی

بابل: بابل شہر میں زبانیں بگڑ گئیں، گڈمڈ ہو گئیں۔

۹۔ البُلْبُل جمع بَلابِل (ح): بلبل۔ بلبل الإبریق: لوٹے کی ٹونٹی، عوام کے نزدیک بلبل بچوں کے ایک کھلونے کا نام ہے لیکن اس کے لئے فصیح لفظ الدُّوَّامَة (لٹو) ہے۔

○ بَلَّ ـ بَلاًّ ہ/ہ: کو تر کرنا، بھگونا۔ ــــ من مرض: بیماری سے صحت یاب ہونا۔ بَلَّلَ ہ/ہ: کو تر کرنا، بھگونا۔ اَبَلَّ من مرض: بیماری سے صحت یاب ہونا، شفا پانا۔ تَبَلَّلَ و اِبْتَلَّ: تر ہونا، بھیگنا، نم ہونا۔ بَلّ: تر کرنے والا، بھگونے والا، نمی، تری، سیل، رطوبت، گیلا پن۔ بِلّ: صحت یابی، افاقہ، شفایابی۔ بِلَّة: نمی، تری، رطوبت، سیل، ہوا میں رطوبت۔ مازاد الطینَ بلَّةً: جس سے معاملہ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ بَلَل: نمی، تری، رطوبت، ہوا میں رطوبت۔ بَلِیل: نم اور ٹھنڈی ہوا۔ بَلِیلَة: دم پخت مکئی اور چینی سے بنا ہوا ایک کھانا۔ اِبلال: صحت یابی، افاقہ، شفایابی۔ تَبَلُّل: نمی، رطوبت، ہوا میں رطوبت، سیل۔ مَبْلُول و مُبَلَّل و مُبْتَلّ: نم، تر، بھیگا ہوا، مرطوب۔ بِلّی: کری بِلّی: گولی، گولی دار دھرا ball bearing۔

○ بَلاتِین: پلاٹین، پلاٹینم Platinum۔

بلت: ۱۔ بَلَتَ ـ بَلْتًا الشیءَ: کو کاٹنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ ــــ ـ بَلْتًا و بَلِتَ ـ بَلَتًا و انْبَلَتَ: کٹنا، منقطع ہونا۔ اَبْلَتَ الرجلُ: گفتگو سے رک جانا۔ البَلِیت او البِلِّیت: مختصر کلام کرنے والا فصیح، عاقل، دانا، عقلمند۔ المُبَلَّت: آراستہ کلام۔

۲۔ اَبْلَتَ ہُ یمیناً: کو قسم دلانا۔

بلج: ۱۔ بَلَجَ ـ بُلُوجًا و اَبْلَجَ و تَبَلَّجَ و انْبَلَجَ و اِبْتَلَجَ الصبحُ: صبح کا روشن ہونا۔ بَلِجَ ـ بَلَجًا الحقُّ: حق ظاہر ہونا۔ صفت: اَبْلَج مونث: بَلْجاء۔ اِبْلاجَّ و اِبْلِیجاجًا: ظاہر ہونا، آشکارا ہونا۔ البُلْجة و البَلْجة: سپیدہ صبح، پو پھٹنے کا وقت، علی الصباح۔

۲۔ بَلِجَ ـ بَلَجًا صدرُہُ: کا انشراح صدر ہونا۔ ــــ الوجهُ: ہنس مکھ ہونا۔ تَبَلَّجَ الیه: پر ہنسنا، ہشاش بشاش ہونا۔ البَلْج و البَلِج: ہنس مکھ، کشادہ رو۔ الأبلج: خوش، شادان، مسرور، خوش مزاج، ہنس مکھ، پرسکون، متین، روشن، چمکدار، منور، تاباں، واضح، صاف، حسین، خوبصورت، خوش اخلاق۔ البُلْجة والبَلْجة و البَلَج: ابروؤں کے درمیان کشادگی۔

○ بَلاج: جھیل یا سمندر کا کنارہ۔

○ بَلاجْرا: ناکافی خوراک کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری اس سے جلد پھٹ جاتی ہے اور اکثر پاگل پن پر منتج ہوتی ہے (pellagra)۔

○ بَلارِج: بگلا، لقلق۔

○ بلاستیك: پلاسٹک (plastic)

○ بلاك: سپارک پلگ، آتش زن spark-plug۔

○ بَلْبَطَ: قل قل کرنا، گڑ گڑ کرنا۔

○ بَلْبَلَ ہ/ہ: کو پریشان کرنا، بے چین کرنا، تشویش میں ڈالنا، کو جوش میں لانا، بھڑکانا، برانگیختہ کرنا، گڈمڈ کرنا، درہم برہم کرنا، خلط ملط کرنا، بوکھلانا۔ تَبَلْبَلَ: بے چینی محسوس کرنا، پریشان و مضطرب ہونا، گڈمڈ ہونا، بوکھلا جانا۔ بَلْبَلَة جمع بَلابِل: پریشانی، تشویش، بے چینی، فکر، گڑبڑ، تری، گھبراہٹ، بے ترتیبی، سخت بدنظمی، خلل، اختلال۔ بَلْبال: پریشانی، بے چینی، قلق، تشویش۔ بَلابِل: پریشانیاں، اندیشے۔ تَبَلْبُل: ابتری، گڈمڈ، گڑبڑ، پریشانی، گھبراہٹ۔ تبلبلُ الألسنة: زبانوں کی گڑبڑ (برج بابل پر)۔

○ بَلَجَ ـ بُلُوجًا: چمکنا، صبح کا روشن ہونا۔ بَلِجَ ـ بَلَجًا ب: پر خوش ہونا، محظوظ ہونا۔ اَبْلَجَ: (سورج کا) چمکنا۔ تَبَلَّجَ و اِبْتَلَجَ بمعنی بَلَجَ۔ ابتلاجُ الفجر: سویرا، تڑکا، فجر۔

○ بِلْجِیكا: بلجیم (ایک ملک کا نام) Belgium۔ بِلْجِیکِی: بلجیم کا باشندہ، بلجیم کا یا بلجیم سے متعلق (اسم و صفت)۔

بلح: ۱۔ بَلَحَ ـ بَلْحًا الثَّرَی: تری کا خشک ہونا۔ کیچڑ کا خشک ہونا۔ ــــ ت البئرُ: کنویں کا پانی سوکھ جانا صفت: بَلُوح۔ البالِح جمع بَوالِح: وہ زمین جس میں کچھ نہ اگے۔

۲۔ بَلَحَ ـ بَلْحًا الغریمُ: قرضدار کا مفلس اور نادار ہونا۔ ــــ بُلُوحًا و بَلَّحَ و تَبَلَّحَ: تھکنا، عاجز ہونا۔ کہا جاتا ہے: بَلَحَ و بَلَّحَ عَلَیَّ: میں نے اس کے پاس کچھ نہیں پایا۔

۳۔ بَلَحَ ـ بَلْحًا الرجلُ بشهادته: شہادت کو چھپانا۔ ــــ الرجلُ بالامر: کسی بات سے انکار کرنا۔ تَبالحا: باہم انکار کرنا۔

۴۔ بالَحَ القومُ: بلا حق کے لوگوں سے جھگڑا کرانے پر غالب آنا۔

۵۔ اَبْلَحَ النخلُ: درخت خرما پر کچی کھجوریں نکل آنا۔ البَلَح (ن): کچی کھجور۔

۶۔ البُلَح جمع بِلْحان (ح): گدھ سے کچھ بڑا ایک پرندہ۔ بُلَّحاء (ن): ایک خوشبودار پھولوں والا پودا۔

○ بَلَخ: (اسم جنس واحد بلخة) کھجوریں۔

بلخ: بَلِخَ ـ بَلَخًا و تَبَلَّخَ: تکبر کرنا، احمق ہونا صفت: اَبْلَخ مونث بَلْخاء، و بَلِخ و بُلَخ۔ البَلَخ و البُلاخ (ن): شاہ بلوط کا درخت۔

بلد: ۱۔ بَلَدَ ـ بُلُودًا بالمکان: جگہ میں قیام کرنا، کو شہر بنانا۔ صفت: بالِد جمع بَلَدة۔ بَلَّدَہ (فی اصطلاح البعض): کو شہر کی آب و ہوا کا جس میں رہتا ہو عادی بنانا۔ اسی سے ہے: حدیقةُ ــــ: وہ باغیچہ جہاں پر نباتات اور حیوانات کو اس شہر کی آب و ہوا کا عادی بنایا جائے جس میں انہیں منتقل کیا گیا ہو۔ اَبْلَدَ القومُ: شہر میں مستقل رہنا۔ ــــ ہ: کو شہر میں مستقل رکھنا۔ تَبَلَّدَ القومُ: ویراں جگہ میں آباد ہونا، شہر کی آب و ہوا کا عادی ہو جانا۔ البلد جمع بِلاد و بُلْدان: کوئی جگہ، آباد ہو یا غیر آباد، قبر۔ البَلَدان: بصرہ اور کوفہ۔ البَلْدة جمع بلاد و بُلْدان: کوئی جگہ آباد ہو یا غیر آباد، شہر جیسے شام میں دمشق اور عراق میں بصرہ۔ قصبہ، گاؤں، جگہ، جس میں آپ رہتے ہوں، متوسط رقبہ کا شہر۔ البَلَدِیّ: ملک، شہر، قصبہ، گاؤں یا کے متعلق۔ اِنْتاجٌ بَلَدِیّ: ملکی پیداوار۔ البَلَدِیَّة یا المجلس البَلَدِیّ: میونسپلٹی، میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن۔ البلاد مفرد بَلَد و بَلْدَة: ملک، وطن۔ بلادُ العالَم: دنیا کے ممالک میں سے ہر ملک۔ الدفاع عن البلاد: ملک کا دفاع۔ مصالحُ البلاد: ملک کے مفادات، مصلحتیں۔ یا بلادی: اے میرے وطن، اے وطن۔ البُلْدان مفرد بَلَد و بَلْدَة: تمام ممالک، تمام وطن۔ بُلْدان العالم: دنیا کے ممالک۔

۲۔ بَلُدَ ـ بَلادَةً: کند ذہن ہونا۔ صفت: بلید و اَبْلَد۔ بَلَّدَ: کمزور رائے والا ہونا، کم ہمت ہونا۔ ــــ الفرسُ: گھوڑے کا آگے نہ آنا۔ ــــ السحابةُ: بادل کا نہ برسنا۔ ــــ الرجلُ: بخیل ہونا۔ تَبَلَّدَ: کند ذہن ہونا، کند ذہن بننا یا ظاہر کرنا، حیران ہو کر ہچکچانا۔ المُبَلَّد: متحیر، بے وقوف، پاگل۔

۳۔ بَلِدَ ـ بَلَدًا: کشادہ ابرو ہونا۔ صفت: اَبْلَد۔ تَبَلَّدَ الصبحُ: صبح کا روشن ہونا، آشکارا ہونا۔

۴۔ تَبَلَّدَ: افسوس کرنا۔ ــــ الرجلُ: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا، غم یا درد سے۔

۵۔ البَلْدَة: سینہ۔ کہا جاتا ہے: هو واسعُ البَلْدَة: وہ کشادہ سینے والا ہے۔

○ بَـلُـدَ ۔ بَلَادَۃً: بیوقوف ہونا، احمق ہونا، کندذہن ہونا۔ بَـلَّـدَ ہ: کو کسی (ملک یا علاقہ) کی آب وہوا کا عادی بنانا، خوگر بنانا۔ تَبَلَّدَ: کسی ملک یا علاقے کی آب و ہوا کا عادی ہونا، خوگر ہونا، بے وقوف ہوجانا، بے حس ہو جانا، حماقت کی حالت میں کرنا، اپنے آپ کو بے وقوف ظاہر کرنا۔ تَبَالَدَ: بے وقوفی کا حیلہ کرنا، تصنع کرنا۔ بَلَد (مذکر و مونث) جمع بِلَاد: ملک، قصبہ، شہر، جگہ، گاؤں، کسی علاقے کی پوری آبادی۔ بِلَاد: ملک۔ بُـلْـدَان: ممالک۔ بِلَادُ الحبش: حبشہ۔ بِلَادُ الصین: چین china۔ بِلَادُ الهند: ہندوستان India۔ بَلْدَة: قصبہ، شہر، جگہ، کسی علاقہ کی پوری آبادی، گاؤں، دیہاتی آبادی، بستی (township)۔ بَلَـدِی: دیسی، ملکی وطن کا، مرز بوم کا، وطنی، (ہم) شہری، ہم وطن، دیہاتی، مقامی، (کا) باشندہ، بلدیاتی۔ مجلسٌ بَلَدِیٌّ: سٹی کونسل، لوکل کونسل۔ بَلَدِیَّة جمع بلدیات: بستی، آبادی، دیہی آبادی، وارڈ (شہر کا) علاقہ، بلدیہ، میونسپلٹی، میونسپل کونسل، لوکل اتھارٹی۔ بَلِید و أَبْلَد: بیوقوف، کندذہن، احمق۔ بَلَادَة: بے وقوفی، حماقت، سادہ لوحی۔ تَبَلُّد: حماقت، بے وقوفی، افسردگی، کندذہنی، بے حسی، بے اعتنائی، سرد مہری، مردہ دلی۔ مُتَبَـلِّـد: بے وقوف، بے حس، مدہوش، کندذہن، غبی۔

بلذ: البَلَاذُر (ن): ایک درخت جس کی لکڑی سے فرنیچر بنایا جاتا ہے اور اس کے تنے سے کئی قسم کی گوند نکلتی ہے۔

بلر: تَبَلَّرَ و تَبَلْوَرَ: بلور کے مشابہ ہونا۔ البَلُّور و البِلَّور: ایک قسم کا شیشہ، شفاف اور سفید جوہر۔

بلز: الابْلِیز و طِینُ الابْلِیز: مصر کی مٹی جو دریائے نیل سیلاب کے بعد چھوڑ جاتا ہے۔

بلس: ۱۔ أَبْلَسَ: بے خبر ہونا، شکستہ دل اور غمگین ہونا۔ ـــ فی امرہ: کے کسی کام میں حیران ہونا صفت: بَلِس و مُبْلِس۔ ـــ ہ: کو متحیر کرنا۔ ـ من رحمة اللّٰہ: اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ البَلَس: بے خبر آدمی۔ إِبْلِیس جمع اَبَالِیس و اَبَالِسَة: شیطان کا علَم جنس ہے۔

۲۔ البَلَاس جمع بُلُس: ٹاٹ، بالوں کا بنا ہوا فرش۔ البَلَّاس: ٹاٹ بیچنے والا۔

۳۔ البلاستیك (ف ج): اشخاص اور اشیاء کے کردار ادا کرنے کا فن (تصویر کشی یا مٹی، لکڑی، کھریا مٹی یا دھات سے مجسمے یا چھوٹے کرداروں کے ذریعے)۔ (ك): پلاسٹک Plastic۔

۴۔ بَلْسَمَ: گھبراہٹ سے چپ ہوجانا۔ ـــ ہ: کو مکروہ چہرے والا بنا دینا۔ بُلْسِمَ: مکروہ چہرے والا ہونا، برسام میں مبتلا ہونا۔ تَبَـلْـسَـمَ: گھبراہٹ سے چپ ہوجانا۔ البَـلْـسَـم (طب): گوند جیسا مادہ جس سے زخموں پر لیپ کیا جاتا ہے، ایک عطر والا سائل۔ البلسام (طب): برسام۔

۵۔ البَـلَـسَان (ن): ایک درخت سفید چھوٹے پھولوں والا جس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔ البُلْسُن (ن): مسور، مسور کے مشابہ ایک قسم کا دانہ۔ البَـلَـسَـان او الخَمَان (ن): یورپ اور شمالی ایشیا کا ایک درخت جس کے پھول سفید اور چوڑے ہوتے ہیں آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے، اور کئی فوائد کا حامل ہے۔

○ بَلَسَان: روغن بلسان، گلمہندی، مرہم، طلاء، خوشبودار مرہم یا لیپ، بعض درختوں کا خوشبودار پانی، بلسام کا درخت، سفید خوشبودار پھولوں والا پودا۔

○ بَلْسَم جمع بلاسِم: بلسام، گل مہندی، مرہم۔ بَلْسَمِی: بلسامی، گل مہندی کا، خوشبودار۔

بلش: البَلَشُون (ح): بگلا، بوتی مار، یہ پرندہ مالک الحزین کے نام سے مشہور ہے۔

○ بَلْشَفَ: انتہاء پسند ہونا، بالشویک ہونا، اشتمالی ہونا، انقلاب پسند ہونا، عوامی آمریت کا حامی ہونا۔ بلشفة: انتہا پسندی، اشتمالیت۔ بُلْشِفِی جمع بَلَاشِفه: انتہا پسند، اشتمالی، بُلْشِفِیة: اشتمالی انتہا پسندی، انتہاء پسند اشتمالیت۔

بلص: ۱۔ بَلَصَ ۔ بَلْصًا ہ: کا مال لے لینا اور اس کے پاس کچھ نہ چھوڑنا۔ بَلَّصَ فلانًا من مالہ: سے زبردستی اس کا مال لے لینا۔ البَـلْـص: رعیت سے ظلما اور ناجائز طور پر مال لینا۔

۲۔ بَالَصَ ہ: پر کود پڑنا۔ تَبَلَّصَ الشیءَ: کسی چیز کو خفیہ طور پر طلب کرنا۔ ـ ت الغنمُ: بھیڑ بکریوں کا کم دودھ والی ہونا۔

۳۔ البَلَّصُوص جمع بَلَاصِی (ح): ایک پرندہ کا نام۔ البَلْوصی (مو): بانسری کا آواز دینے والا حصہ جسے بجاتے وقت منہ میں رکھا جاتا ہے۔

○ بَلَصَ ۔ بَلْصًا و بَلَّصَ ہ من: سے کوئی چیز زبردستی حاصل کرنا، لے لینا، اینٹھ لینا، بزور یا بالجبر لینا، جبرا وصول کرنا۔ ـــ ہ: کو بلیک میل کرنا، سے افشائے راز کی دھمکی دے کر رشوت لینا۔ بَـلْـص: زبردستی حاصل کرنا، اینٹھنا، بلیک میل، زبردستی ٹیکس عائد کرنا۔ بلاص جمع بلالیص: مٹی کا برتن۔

بلط: ۱۔ بَلَطَ ۔ بَلْطًا و بَلَّطَ و أَبْلَطَ الدارَ: گھر میں پتھر کے چوکوں کا فرش کرنا۔ أَبْـلَـطَ الـلِّـصُّ الرجلَ: چور کا کسی آدمی کا تمام مال چرا لینا۔ ـــ و أُبْلِطَ: زمین سے چمٹنا، محتاج وفقیر ہونا۔ البَلَاط: پتھر کے چوکے جن سے فرش تیار کیا جاتا ہے۔ بَلَاطُ الـمَـلِـك: بادشاہ کا محل، مجازاً: شاہی مجلس، شاہی سرغنے، قائدین زعماء، ہموار و برابر زمین۔

۲۔ بَـلَّـطَ الرجلُ: چلتے ہوئے تھک جانا۔ بَالَطَ فی أُمُورِہ: میں مبالغہ کرنا۔

۳۔ بَالَطَ ہُ: کو چھوڑ کر بھاگ جانا۔ ـ القومُ: آپس میں تلوار سے لڑنا۔ تَبَالَطَ القومُ: آپس میں تلوار سے لڑنا۔

۴۔ البَلُّوط: واحد بَلُّوطَة (ن): ایک بڑا درخت جس کا تنہ موٹا اور لکڑی مضبوط ہوتی ہے، بلوط کا پھل۔ البَلُّوطُ العفصیّ (ن): بلوط کا پھل۔ بَلُّوط الارض: کاسنی کے مشابہ پتوں والی نبات۔ شاہ بَلُّوط (ن): شاہ بلوط، کستنا۔ البُـلْـطِیّ (ح): ایک قسم کی مچھلی جسے مشط بھی کہا جاتا ہے۔

۵۔ البَلْطَة: تیشہ، تبر، کلہاڑی جمع بَلَطَات و بُلَط۔ البَلْطجیّ: سفر مینا کا سپاہی۔

۶۔ بَلْطَحَ: زمین پر لیٹ جانا۔ ـــ الشیءَ: کو چوڑا کرنا۔

○ بَـلَّـطَ ہ: کا فرش (پتھر کی سلوں یا ٹائلوں سے) باندھنا۔ بَلَاط: فرش، ٹائلوں کا فرش، فرش کی ٹائلیں، محل۔ جمع أَبْلِطَة: فرش کی ٹائلیں۔ البَلَاطُ الملکیّ: قصر شاہی، شاہی دربار۔ حداد البلاط: درباری ماتم، سوگ۔ بَلَاطَة: فرش کی ٹائل، فرش کا پتھر، پتھر کی سل، فرشی پتھر۔ تبلیط: فرش بندی، ٹائلیں بچھانا۔ مُبَـلَّـط: پتھروں یا ٹائلوں سے فرش کیا ہوا، ٹائلیں لگا ہوا۔ بلوط: بلوط، شاہ بلوط، شاہ بلوط کا پھل۔ بَـلْـطَـة: گوند۔ بَلْطُو جمع بَلْطُوات و بَلَاطِی: اوورکوٹ، ڈھیلا لبادہ، چغہ، فرغل۔ بُلْطِیّ: دریائے نیل کی ایک مچھلی کا نام، جو کھائی جاتی ہے۔

○ البَلْطِیق: بالٹک ممالک Baltic countries۔ بحرُ البَلْطِیق: بحر بالٹک Baltic sea۔

○ بَالُوظَة: دستی پریس Hand press، کریم کی ایک قسم جو اناج کے نشاستہ، لیمو کے رس اور شہد وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے۔

بلع: ۱۔ بَلِعَ ۔ بَلْعًا و ابْتَلَعَ الشیءَ: کو نگلنا۔ بَلَّعَ و أَبْلَعَ ہُ الشیءَ: کو کوئی چیز نگلوانا۔ کہا جاتا ہے:

بَلَّعَهُ ريقَه: اس نے اسے اتنی مہلت دی کہ تھوک نگل لے۔ تَبَلَّعَهُ: کا گھونٹ لینا۔ البُلَعَة: بسیار خور آدمی۔ البُلَعَة جمع بُلَع: چکی کا سوراخ۔ البَلُوع: بہت نگلنے والا۔ المَبْلَع: حلق۔ المِبْلَع: پیٹو، بسیار خور۔ البالُوعة و البَلاّعة و البَلُّوعَة جمع بَوالِيع و بَلالِيع: گھر کے درمیان بہنے والی گندی نالی، بدرو۔

۲۔ بَلَّعَ و تَبَلَّعَ الشيبُ في رأسِه: اس کے سر میں بڑھاپے کے آثار (سفید بال) ظاہر ہوئے۔

۳۔ بَلْعَمَ اللقمة: لقمہ نگلنا۔ البَلْعَم: پیٹو، بسیار خور۔ البُلْعُم و البُلْعوم: حلق۔

○ بَلِعَ ـ و بَلَعَ ـ بَلْعًا ه: کو نگلنا، نگل لینا، بمشکل ضبط کرنا، پی جانا، کو برداشت کرنا، گوارا کرنا۔ بَلَعَ رِيقَهُ: اپنا تھوک نگلنا، سانس لینا، تھوڑا سا آرام لینا، توقف کرنا، اپنے آپ کو روکنا، روکے رکھنا (اس شخص کا جو غصہ میں ہو)۔ بَلَّعَ و أَبْلَعَ ه ه: کو کوئی چیز نگلوانا۔ بَلَّعَ ريقَهُ: کو تھوڑی سی مہلت (یا آرام) دینا۔ اِبْتَلَعَ بمعنی بَلِعَ۔ بَلْعَة: بڑا لقمہ، نوالہ یا گھونٹ۔ بَلاّعَة و بَلُّوعَة جمع بَلاّعات و بَلالِيع: نالی، موری، بدرو۔ بالُوعَة جمع بالوعات و بَوالِيع: نالی، بدرو، گندہ نالہ۔

○ بُلْعُم جمع بَلاعِم و بُلْعُوم جمع بَلاعِيم: منہ اور ناک کے پیچھے وہ جگہ جہاں ناک اور منہ کو جانے والے راستے گلے سے ملتے ہیں pharynx۔ بلعوم: نرخرا، حلقوم، ٹینٹوا، حلق سے معدے تک کی نالی Oesophagus۔

بلغ: ۱۔ بَلَغَ ـ بُلُوغًا الثمرُ: پھل کا پکنا۔ ـــ الغلامُ: لڑکے کا بالغ ہونا۔ البالِغ: بالغ۔ کہا جاتا ہے: غلام بالِغ: بالغ لڑکا۔ جارية بالغ و بالغة: بالغ لڑکی۔

۲۔ بُلِغَ الرجُلُ: مشقت میں مبتلا ہونا، مغموم ہونا۔ بَلَغَت ـ بُلُوغًا العِلّةُ: بیماری کا سخت ہونا۔ کہا جاتا ہے: بلغ منی كلامُكَ: تمہاری باتوں نے میرے دل پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ بالَغَ في الأمر: کوشش و مشقت میں کوئی کوتاہی نہ چھوڑنا۔ تَبَلَّغَتْ به العِلّةُ: کی بیماری کا سخت ہو جانا۔ تَبالَغَ فيه المرضُ: کی بیماری کا انتہا تک پہنچنا اور شدید ہو جانا۔ ـ الدبّاغُ في الجلد: چمڑے رنگنے والے کا چمڑے کو خوب طرح رنگنا۔ الأَبْلَغ: جسے انتہا تک پہنچایا گیا ہو۔

۳۔ بَلُغَ ـ بلاغَةً: فصیح و بلیغ ہونا صفت: بليغ جمع بُلَغاء۔ تَبالَغَ الرجُلُ في كلامِه: میں بلاغت ظاہر کرنا۔ البِلْغ و البَلْغ: بليغ۔ البَلاغي و البُلاغي: فصیح و بلیغ جو دل کی بات کو اپنی عبارت آرائی سے بیان کرے۔

۴۔ بَلَغَ ـ بُلُوغًا ه: کو پہنچنا۔ بَلَغَ الفارسُ: سوار کا گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لئے لگام کو بڑھانا۔ ـــ و أَبْلَغَ ه اليه: کو کے پاس پہنچانا۔ کہا جاتا ہے: بَلَّغَ عنه الرسالةَ إلى القوم: اس نے اس کا پیغام قوم تک پہنچایا۔ البَلاغ جمع بَلاغات: پیغام، مطلوبہ چیز تک رسائی۔ المَبْلَغ جمع مَبالِغ: حد و انتہاء۔ البِلْغ و البَلْغ: انتہا تک پہنچانے والی چیز۔ کہا جاتا ہے: هو احمق بِلْغ: وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ هي حمقاءُ بِلْغة: وہ انتہاء کی بے وقوف ہے۔ امرُ اللهِ بَلْغٌ: اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچنے والا اور نافذ ہے۔ امر بالِغ: اپنی مطلوبہ جگہ پہنچنے والا حکم۔ جيش بَلْغٌ: مطلوبہ جگہ پہنچنے والا لشکر۔ البَلْغَة: انتہائی بے وقوفی۔

۵۔ تَبَلَّغَ بالشيء: پر اکتفا کرنا، قناعت کرنا۔ البَلاغ جمع بَلاغات: کفایت۔ حدیث میں ہے: ان في هذا لبلاغًا لقوم عابدين: اس میں عبادت گذار بندوں کے لئے فرائض ادا کرنے کے کافی ہدایات ہیں۔ ـــ و البُلْغَة و البَلاغ و التَبَلُّغ: صرف گذارے کی مقدار۔

۶۔ المَبْلَغ جمع مَبالِغ: روپے پیسے کی مقدار۔ البَلاغ جمع بَلاغات: کتاب جس میں مسئلہ کا حکم بیان کیا گیا ہو۔ البَلاغات: چغل خوریاں۔ کہا جاتا ہے: لا يفلح اهل البلاغات: چغل خوریاں کرنے والے کامیاب نہیں ہوا کرتے۔

۷۔ البَلْغَم: قدیم اطباء کے نزدیک چار بدنی اخلاط میں سے ایک خلط کا نام۔ (خون، بلغم، صفرا اور سوداء) بلغم۔

○ بَلَغَ ـ بُلُوغًا ه/ه: تک پہنچنا، کو پہنچنا، کے پاس آنا، کسی جگہ پہنچنا، کسی وزن یا مقدار کا ہونا، کا مال، کی قیمت، کی مالیت کا ہونا، کے لائق ہونا۔ ـــ ه: کے کانوں تک آنا۔ ـــ: بالغ ہونا، (پھل وغیرہ کا) پکنا۔ ـــ من: کو تھکا دینا، پر اثر کرنا، کو متاثر کرنا۔ ـــ من/في: میں دور جانا، میں اونچا درجہ حاصل کرنا۔ بَلَغَ به إلى: کو تک پہنچانا، لیجانا، کو ایسی جگہ پہنچانا جہاں۔ بلغ به الترنحُ أن: وہ اس زور سے چکرانے لگا کہ ...... بَلَغَ الامرُ مبلغَ الجِدّ: معاملہ تشویش ناک ہو گیا۔ بلغ السيلُ الزُبى: معاملہ نقطۂ عروج تک پہنچ گیا، فیصلہ کن حالات تک جا پہنچنا۔ بَلَغَ مَبلَغَ الرجال: وہ جنسی طور پر سن بلوغ کو پہنچ گیا، بالغ ہو گیا، مرد بن گیا۔ بَلَغَ أشُدَّه: پوری بلوغت کی عمر کو پہنچنا، بالغ ہونا، نقطۂ عروج تک پہنچنا۔ بلغ في الشيء مبلغا یا بلغ من الشيء مبلغًا: کسی چیز کا اونچا درجہ حاصل کرنا۔ حين بلغتُ بذكرياتي هذا المبلغَ: جب میں اپنی یادوں میں اس مقام پر پہنچا۔ بلغ منه كُلَّ مبلغ: کو تباہ و برباد کرنا۔ بَلَغَ منتهاهُ: نقطۂ عروج کو پہنچنا، فیصلہ کن حالات تک جا پہنچنا۔ بَلَّغَ ه ه: کو تک پہنچانا، کو کوئی چیز حاصل کروانا۔ ـــ ه إلى: کو کے پاس لیجانا، لانا، دیکھنا کہ کوئی چیز کسی تک پہنچ جائے۔ ـــ ه ه: کے پاس کوئی چیز پہنچانا، کو کی اطلاع دینا، کی خبر دینا، کی رپورٹ دینا، کو کے بارے میں بتانا۔ ـــ عن: کے بارے میں رپورٹ کرنا، کی تفصیل دینا، کے خلاف اطلاع دینا، کی رپورٹ کرنا، کی مخبری کرنا۔ بَلَّغَ رسالةَ: مشن پورا کرنا۔ بَلِّغْهُ سلامي: اسے میرا سلام دینا۔ بالَغَ في: میں مبالغہ کرنا، مبالغہ سے کام لینا، کو زیادہ دیر تک کرنا، میں حتی الوسع کوشش کرنا۔ أَبْلَغَ ه/ه إلى: کو تک پہنچانا۔ ـــ ه إلى: کو کسی وزن یا مقدار کا کرنا۔ ـــ ه إلى: (رقم تنخواہ) تک بڑھانا۔ ـــ ه عن/ب: کو کے بارے میں مطلع کرنا، بتانا۔ ـــ ه: کا اعلان کرنا، کو بیان کرنا، کو ظاہر کرنا، کا افشاء کرنا۔ ـــ عن: کے خلاف اطلاع دینا، کی رپورٹ کرنا، کی مخبری کرنا۔ أَبْلَغَ البوليسَ ب: پولیس کو کسی بات کی رپورٹ کرنا۔ تَبَلَّغَ ب: پر صابر، شاکر، قانع یا راضی ہونا، مطمئن ہونا، کے ساتھ اپنی بھوک کو تسکین دینا، کچھ کھانا۔ ـــ: مشکل سے اپنی روزی کمانا؛ (خطوط وغیرہ) دیا جانا، تقسیم کیا جانا، بانٹا جانا؛ (کوئی چیز) بھیجا جانا، پہنچایا جانا، ارسال کیا جانا، منتقل کیا جانا۔

لا بَلُغَا: (کسی ناخوشگوار بات کے ذکر پر کہا جاتا ہے) اللہ نہ کرے کہ یہ بنی تو جائے لیکن پوری نہ کی جائے۔ بُلْغَة و بَلاغ: کفایت، کافی مقدار، مرفہ الحالی، فراغت، آسودگی، موزونیت۔ بَلاغ جمع بَلاغات: اطلاع، مکتوب، مراسلہ، پیغام، رپورٹ، اعلان، سرکاری اعلان یا بیان، ڈھنڈورا، منادی، اشتہار، پولیس کا اعلان۔ بلاغ اخير: الٹی میٹم۔ بَلِيغ جمع بُلَغاء: فصیح، بہت، بے حد، سخت شدید، گہرا، پائدار، مضبوط، مستقل، (تاثر وغیرہ) تشویشناک، سنگین (زخم وغیرہ)۔ بُلُوغ: پہنچنا، حصول، آمد (کسی جگہ پر)؛ پختگی، بلوغ، بلوغت،

قانونی بلوغت، بلوغت کی قانونی عمر۔ بلاغة: فصاحت، بلاغت، خوبصورت اسلوب کا فن، فن تحریر، فن انشاء، مضمون نگاری کا فن، لکھنے کا فن، لٹریچر۔
علم البلاغة: فصاحت، بلاغت معانی بیان۔
ابلغ: زیادہ سخت، زیادہ شدید، شدید تر، زیادہ گہرا، زیادہ پائدار، زیادہ تشویشناک، زیادہ سنگین، زیادہ سنجیدہ۔ مبلغ جمع مَبالِغ: مقدار، رقم، حد، دسترس، رسائی، گنجائش، حد نظر، خیال کی وسعت، دائرہ، میدان، فاصلہ۔ مبلغ اِسمی: نام کی یا برائے نام رقم، مقدار۔ المَبالِغ المُودَعَة: (بنک میں جمع کردہ) رقم، رقوم۔ لِیَتَبَیَّنَ مبلغ قولی مِن الجد یہ معلوم کرنے کے لئے کہ میرے الفاظ کو کس حد تک سنجیدگی سے لیا گیا۔ تَبلِیغ جمع تبلیغات: ترسیل، ایصال، پہنچانا، انتقال، ابلاغ، (الی تک)، اطلاع (عن کے بارے میں) اعلان (عن کا) رپورٹ (عن کی): اطلاع، مکتوب، مراسلہ، اعلان، نوٹس کتاب۔ التبلیغ: کاغذات نمائندگی، مراسلہ، تعارف، تصدیق نامہ credentials۔
مُبالَغة جمع مُبالغات: مبالغہ۔ ابلاغ: ترسیل، پہنچانا، ابلاغ، نشریہ۔ بالِغ: دور تک پھیلا ہوا، دور رس، کافی، شدید (زخم)، گہرا، شدید، سخت، پرجوش، بے قابو، قوی (احساس) مضبوط، سخت، شدید، بالغ، پختہ (عقل) بلوغت کی عمر، قانونی طور پر بالغ۔
مُبَلِّغ (خبر کا) حامل، پیغامبر، اطلاع دینا والے، مخبر، سراغ رساں۔
○ بُلغہ و بُلغَة جمع بلغات و بُلَغ: زرد چمڑے کے سلیپر۔
○ بُلغَاریا: ایک ملک کا نام۔ بلغاری: بلغاریا کا، بلغاریہ کا باشندہ، بلغاری (اسم وصفت)۔
○ بَلغم: بلغم، ریشہ، جمع بَلاغِم: تھوک، رال بلغم جو تھوکا جائے sputum۔ بَلغَمِيّ: بلغمی، لعاب دار، لیس دار، چپچپا، بلغمی مزاج کا۔
بلق: ۱۔ بَلَقَ ـ بُلُوقًا: جلدی کرنا ـــ و ابلَقَ الباب: دروازہ چوپٹ کھول دینا، دروازہ جلدی سے بند کر دینا۔ اِنبَلَقَ البابُ: دروازہ کھلنا۔
۲۔ بَلِقَ ـ بَلَقًا: متحیر ہونا۔
۳۔ بَلِقَ ـ و بَلُقَ ـ بَلَقًا و أَبلَقَ اِبلَقَّ و اِبلاقَ و اِبلَولَقَ: سیاہ وسفید داغوں والا ہونا صفت: ابلَق مونث بَلقَاء جمع بُلق: البَلَق: سنگ مرمر۔ والبُلقَة: سیاہی وسفیدی۔ الأَبلَق الفَردُ: سموأل کا مشہور قلعہ جو سیاہ وسفید پتھروں سے بنا ہوا تھا۔
(ح): ایک ابلق پرندہ جو ملک شام میں ابی بلیق کی کنیت سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے: طلب الأَبلَقَ العَقُوقَ: اس نے غیر ممکن چیز کو طلب کیا۔ کیونکہ ابلق نرکو اور عقوق حاملہ کو کہتے ہیں۔ المُبَلَّق: سیاہ وسفید داغوں والا۔
۴۔ البَلَق: بڑا خیمہ، بالوں کا بنا ہوا گھر۔ البَلُّوق و البَلُّوقَة جمع بلالیق: بیابان، مطلق روئیدگی نہ اگانے والا قطعہ، زمین۔
۵۔ بَلقَعَ المکانُ: جگہ کا ویران اور غیر آباد ہونا صفت: بَلقَع۔ البَلقَع و البَلقَعَة جمع بَلاقِع: ویران اور خالی زمین۔ دارٌ بلقع: ویران اور غیر آباد گھر۔ البَلقَع والمرأةُ البَلقَع: ہر بھلائی اور خیر سے خالی عورت۔ البَلقَعِيّ: صاف۔ کہا جاتا ہے: سہمٌ او سنانٌ بلقعیٌ: صاف پھل والا تیر یا نیزہ۔
○ بَلَفَ ـ بَلفًا و بَلَّفَ: دھونس دینا، دھونس جمانا۔ بلف و بلفَة: دھونس۔
○ بلق: ابلق: چتکبرا، چتلا۔ بِلقِیس: ملکہ سبا کا اسلامی نام۔
○ البَلقان: بلقانی باشندے۔ بلقانی: ملک بلقان کا۔
○ بُلقُع و بُلقُعَةٌ جمع بَلاقِعُ: بنجر زمین۔
○ بَلکُون: بالکونی۔
○ بَلَم: سمورہ (بحرابیض متوسط میں پائی جانے والی ایک قسم کی مچھلی جو اچار ڈالنے میں استعمال ہوتی ہے)۔
(۲) بَلَم جمع ابلام: بجرا۔
بلم: بَلَّمَ الرجلَ: کی برائی بیان کرنا۔ ابلَمت شفتهُ: سوجے ہوئے ہونٹ والا ہونا۔ صفت: اَبلَم۔ البَلَم (ح): چھوٹی سمندری مچھلی۔
بلن: البَلّان (ن): دیکھئے بَلّ۔
○ بَلّان: حمام کا خادم، ایک پودے کا نام جو کھڑے پانی کے نزد اگتا ہے۔ بَلّانَة: حمام کی خادمہ، رانی، بیگم یا ملکہ کی خدمتگار عورت۔
○ بَلَنسِیَة: بلنسیہ (مشرقی ہسپانیہ کا علاقہ اور شہر)۔
بله: ۱۔ بَلِهَ ـ بَلَهًا و بَلاهَةً: ضعیف العقل اور کمزور رائے والا ہونا صفت: اَبلَه مونث بَلهَاء جمع بُله۔ ابلَهَ الرجلَ: کو بیوقوف پانا۔ تَبَلَّهَ: ضعیف العقل اور کمزور رائے والا ہونا، حجت میں عاجز ہونا۔ تَبالَهَ: دیدہ ودانستہ بیوقوف بننا۔
۲۔ بالَهَهُ: کو فریب دینا۔
۳۔ تَبَلَّهَ: گمشدہ شے کا کھوج لگانا ـــ الطریق: راہنمائی اور معلومات کے بغیر کسی راستہ پر چلنا۔
بُلَهنِیَةُ العیش: زندگی کی فراخی و آسودگی۔
۴۔ بَلهَ: اسم فعل بمعنی: چھوڑ دے، ترک کر دے، جیسے: بَلهَ هذا الأمر: یہ کام چھوڑ دے۔
۵۔ بَلهَسَ: تیز چلنا۔
○ بَلِهَ ـ بَلَهًا: بے وقوف ہونا، سادہ مزاج ہونا۔ تَبالَهَ: بیوقوف بننا، بے وقوفی کا بہانہ کرنا۔ اِستَبلَهَهُ: کو بے وقوف یا سادہ لوح سمجھنا۔ بَلَه و بَلاهَة: بے وقوفی، سادہ لوحی، ضعف عقل، دماغی کمزوری۔ بَلاهَة مُبَکِّرَة: دماغی خلل۔ بَلَهْ: اس کا توذکر ہی کیا، اس کو تو رہنے دو۔ اَبلَه: بے وقوف، احمق، کند ذہن۔ بُلَهنِیَة: فراوانی، دولت، ثروت۔
○ بُلهُون جمع بَلاهِین: ابوالہول۔
بلا: بَلا ـ بَلوًا و بَلاءً الرجلَ: کو آزمانا، کا تجربہ کرنا، امتحان لینا۔
بلی: ۱۔ بَلِی ـ بِلًی و بَلاءً الثوبُ: کپڑے کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ صفت: بالٍ و بَلِيّ ـ بَلَّی تَبلِیَةً و أَبلَی إبلاءً الثوبَ: کو بوسیدہ کرنا۔ البِلو و البِلی جمع أَبلاء: پرانا، بوسیدہ۔
۲۔ بُلِیَ الرجلُ: کا امتحان لیا جانا۔ ابلَی اللّٰهُ عبادَہ: اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو مہربانی کر کے آزمانا ـــ فی الحرب بلاءً حَسَنًا: میدان جنگ میں بہادری و شجاعت ظاہر کرنا۔ تَبالاہ: کو آزمانا۔ اِبتَلاہ: کی آزمائش کرنا ـــ الشیء: کو پہچاننا۔ اِستَبلاہ: کی آزمائش کرنا۔ البَلوَی و البِلوَة و البَلِیَة و البَلِیَّة جمع بَلایا: آزمائش، مصیبت۔ البَلاء: خیر یا شر سے آزمائش، غم۔ البِلو والبِلی جمع ابلاء: آزمودہ، تجربہ کار۔ کہا جاتا ہے: هو بِلوُ اسفار و بِلیُها: غم اور سفروں اور تجربات نے اُسے پرانا کر دیا یعنی وہ ان سے گذر کر نہایت تجربہ کار ہو گیا ہے۔ بِلوُ شرّ و بِلیُهُ: وہ شر میں مبتلا اور غالب ہے۔
۳۔ بالَی ہ: کی طرف نقص منسوب کرنا، سے مقابلہ پر فخر کرنا۔
۴۔ بالَی مُبالاةً و بِلاءً و بالَةً و بالاً الامرَ و بالأمر: میں دلچسپی لینا، کی پرواہ کرنا۔ أَبلَی فلانًا عذرَهُ: کے سامنے عذر پیش کرنا اور اس کا اس عذر کو قبول کر لینا، ملامت دور کرنے کے لئے کسی کے عذر کی وضاحت کرنا۔
۵۔ أَبلَی ہ یمینًا: سے تسلی بخش قسم کھانا۔ اِبتَلَی: قسم کھلانا۔
۲۔ اِبلَولَی العشبُ: گھاس کا دراز ہونا۔

۷۔ البَلِیَّۃ (ح): وہ اونٹنی جسکو ایامِ جاہلیت میں اس کے مالک کی قبر پر باندھ دیا کرتے تھے اور اس کو چارہ پانی کچھ نہیں دیتے تھے حتیٰ کہ وہ وہیں مر جاتی تھی۔ المُبَلِّیَات: تابوت میت کے آس پاس رونے والی عورتیں۔

۸۔ بَلَیٰ: حرفِ تصدیق ہے اور نَعَمْ (ہاں) کے معنی دیتا ہے۔ اکثر استفہام کے بعد آتا ہے اور ایجابی معنی کے لئے مخصوص ہے خواہ اس سے پہلے مثبت ہو یا منفی۔ مثلاً: أَقَامَ زَیدٌ کیا زید کھڑا ہوا؟ کے جواب میں بَلَیٰ کے معنی ہیں ہاں۔ یعنی زید کھڑا ہوا۔

۹۔ البِلْیَار: بلیرڈز billiards (ایک کھیل کا نام)۔

○ (بلو و بلی) بلا ۓ بَلْوًا و بَلَاءً ہ/ہ: کو جانچنا، کا تجربہ کرنا، کی تصدیق کرنا، کا شاہد ہونا، کو آزمانا، کی آزمائش کرنا، کو طویل تجربہ کے بعد معلوم کرنا۔ ـــ ہ: کو ایذا دینا، دکھ پہنچانا، تکلیف میں ڈالنا۔ بَلِیَ ۓ بِلًى و بَلَاءً: کپڑے کا پرانا ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا، پھٹا پرانا ہونا، فرسودہ ہونا۔ ـــ: سمٹنا، گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ جانا، دفعۃً غائب ہو جانا، فضا میں تحلیل ہو جانا، ختم ہو جانا، جاتا رہنا، معدوم ہو جانا، بگڑنا، ابتر یا خراب ہونا، معیار سے گرنا، جھکنا، مائل ہونا، گرنے لگنا، ختم ہونے کے قریب ہونا، خستہ حال ہونا، زار و نزار ہونا، (لاش کا) ٹکڑے ٹکڑے ہونا یا ختم ہونا، گلنا، سڑنا، بگڑنا، خراب ہونا، برباد ہونا۔ بـالا ہ/ ہ/ب: کی پرواہ کرنا، کا خیال رکھنا۔ ـــ ہ/ب: پر توجہ دینا، کی نگہداشت کرنا، کی طرف توجہ کرنا، کو عمل میں لانا، کو حساب میں رکھنا۔ ما أُبَالِی لا أُبَالِی: مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ میری حسبِ منشا ہے۔ لَا یُبَالِی: لاپروا، بے پروا، مطمئن، غیر محتاط۔ أَبْلَیٰ ہ: کی آزمائش کرنا، کو آزمانا، کو تجربہ کار بنانا، سخت اور کم زود رنج بنانا، کو عادی یا خوگر بنانا۔ ـــ ہ: کو تباہ و برباد کرنا، کو کمزور کرنا اور ناکارہ کرنا۔ ابلی بلاءً حَسَنًا: قابلِ بھروسہ ثابت کرنا، اپنے آپ کو (جنگ میں) بہادر ثابت کرنا۔ اِبْتَلَیٰ ہ: کو آزمانا، آزمائش میں ڈالنا، ترغیب دینا۔ ـــ ہ ب: کو کے ذریعے ایذا دینا، دکھ دینا، تکلیف پہنچانا، کو سزا دینا۔ اُبْتُلِیَ ب: سے دکھ پانا، نقصان اٹھانا، تکلیف محسوس کرنا، میں مبتلا ہونا۔ بِلًى: زوال، خرابی، بگاڑ، ابتری، فساد، بوسیدگی، تباہی، تنزل، سڑانڈ، گلنا، سڑنا، تحلیل، خستہ حالت، استعمال سے نقصان، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہونا۔ بَالٍ: پھٹا، پرانا، فرسودہ، تارتار، گھسا پٹا، پامال، خستہ حال، زار و نزار، ٹوٹا پھوٹا، شکستہ، زوال پذیر، روبہ تنزل، گرتا ہوا، گلا سڑا۔ بَلِیَّۃ جمع بَلَایَا: آزمائش، مصیبت، رنج، دکھ، عذاب، شامتِ اعمال، رنج و الم، قہر، چپتا، بدقسمتی، بدنصیبی، آفت، تباہی، بربادی۔ بَلَاءٌ: آزمائش، مصیبت، رنج، دکھ، عذاب، شامتِ اعمال، رنج و الم، قہر، چپتا، بدقسمتی، بدنصیبی، عذاب، کوڑا، تازیانہ، عذاب، وبا، طاعون، بلائے آسمانی، قابلِ یقین کام، بہادری، شجاعت، دلیری، ہیرو جیسا کام۔ بَلَاءٌ حَسَنٌ: مہربانی، کرم فرمائی، نوازش، خدا کی رحمت، خدا کا لطف و کرم، عمدہ کام۔ بَلْوَیٰ: آزمائش، مصیبت، رنج، دکھ، عذاب، بدقسمتی، بدنصیبی، آفت، تباہی، بربادی، ضرورت، اشد ضرورت، احتیاج۔ عَمَّتْ البَلْوَیٰ بہ: یہ ایک عام ضرورت بن چکی ہے۔ مُبَالَاۃ: توجہ، لحاظ، پاس۔ لامُبَالَاۃ: بے پروائی، بے رخی، بے اعتنائی، غفلت۔ اِبْتِلاء: آزمائش، مصیبت، رنج، دکھ، تکلیف، ایذا، عذاب، شامتِ اعمال۔ بَالٍ: پرانا، پھٹا ہوا، گھسا پٹا، پھٹا پرانا، فرسودہ، تارتار، پامال، شکستہ حال، ناہموار، خستہ حال، زار و نزار، ٹوٹا ہوا، ٹوٹا پھوٹا، شکستہ، گلا سڑا، متروک، غیر مروجہ، کہنہ۔ مُبَالٍ ب: کا پابند، کی طرف توجہ کرنے والا۔ غیرُ مُبَالٍ ب: کی طرف توجہ نہ کرنے والا۔ مُبْتَلًى (مُبْتَلٍ بھی کہا جاتا ہے مگر یہ کم صحیح ہے) ب: سے ایذا دیا گیا، میں مبتلا۔

○ بلور: تَبَلْوَرَ: قلم بننا، بلور بننا، بلوروں سے ڈھکا ہونا۔ بَلُّور و بِلَّوْر جمع بلّورات: بلور، قلم، صاف شفاف شیشہ، شیشہ، چقماق شیشہ۔ بلور صَخری: شفاف صوان۔ بِلَّوْرَۃ جمع بلورات: قلم، بلور، صاف شفاف شیشہ، چقماق شیشہ، شیشہ، ٹیوب (ریڈیو)، بلور، ڈٹیکٹر (ریڈیو) کی صوانی پلیٹ۔ بَلُّورَۃ (شام میں) نگیٹو (فوٹو)۔ بَلُّورِی و بِلَّوْرِی: بلور کا، بلورین (صفت)۔ بِلَّوْرِیۃ و بِلَّوْرِیۃ جمع بلوریات: لینس lense، دوربین، خوردبین یا عینک کا شیشہ، عدسہ۔ فواکہُ مُبَلْوَرَۃ: چینی کے قوام میں رکھے ہوئے پھل۔

○ بَلُوزَۃ، بَلُوز جمع بلوزات: بلاؤز، چھوٹی قمیض، صدری۔

○ بُلُوک جمع بلوکات: کمپنی (فوج کی)۔ بلوک امین: کوارٹر ماسٹر Quartermaster۔ سارجنٹ sargeant۔

○ بَلُون: بلون، غبارہ balloon

○ بَلَیٰ: ہاں، ہاں بیشک، یقیناً۔

○ بَلْیَاتْشُو: مسخرہ، بھانڈ، نقال۔

○ بِلْیَارْدُو: بلیرڈز billiards۔

○ بَلِیسَۃ: چنت ڈالنا، چنت۔

○ بَلِّین جمع بلالین: پادری کا جبہ۔

○ بَلُّون جمع بلالین: دس کھرب۔

بسم: البَسَم جمع بُسُوم (مو): بربط کا موٹا تار یا اس کی موٹی آواز۔

○ بُمْبَاغ و بُمْبَاغَۃ: بو (bowtie)

○ بُمْبَای: بمبئی (ہندوستان کا ایک مشہور شہر)۔

بن: ۱۔ بَنَّ ۓ بَنًّا بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ اَبَنَّ بالمکان: کسی جگہ میں اقامت پذیر ہونا۔ ـــ ت السحابۃ: ابر کا کئی روز رہنا۔

۲۔ بَنَّنَ الشاۃَ: بکری کو موٹا کرنے کے لئے باندھنا۔ البَنِین: موٹا۔

۳۔ تَبَنَّنَ فی الامر: پر توجہ سے غور کرنا، کو آہستہ آہستہ کرنا۔ البَنِین: دور اندیش، عاقل۔

۴۔ البُنّ (ن): ایک درخت جس کے دانوں سے قہوہ بنایا جاتا ہے۔ البِنّ من الأَمْکِنَۃ: بدبودار جگہ۔ البَنَّۃ: بو (اچھی یا بری)۔ البَنَان: انگلیوں کے پورے، انگلیاں۔ البَنَانَۃ جمع بَنَانَات: بنان کا واحد، انگلی، انگلی کا اوپر کا حصہ۔ البُنَانَۃ: سر سبز و شاداب باغ۔

○ بنی: تَبَنَّی ہ: کو بیٹا بنانا۔ ـــ ہ: کو اختیار کرنا، قبول کرنا۔

بنت: ۱۔ بَنَّتَ عَنْہُ: کے متعلق دریافت کرنا۔ ـــ ہ بکذا: کو کسی چیز سے خاموش کر دینا۔

۲۔ البنتو غراف (حی): تصاویر وغیرہ کو میکنیکی طور پر منتقل کرنے والا آلہ۔

○ بِنْتُو: نپولین (۲۰ فرانک کا سونے کا سکہ)

بنج: ۱۔ بَنَجَ ۓ بَنْجًا: اصل کی طرف لوٹنا۔ البِنج: اصل، جڑ۔

۲۔ بَنَّجَ ہ: کو بھنگ پلا کر سلا دینا۔ البَنْج (ن): بھنگ۔

۳۔ البَنْجَرَۃ جمع بَنَاجِر (اع): توپ کا دہانہ (ترکی لفظ)۔

۴۔ البَنْجَکُشْت (ن): لونگ (فارسی لفظ)۔

○ بَنَّجَ ہ: کو بھنگ پلا کر بے حس کرنا، سن کرنا، پر غنودگی طاری کرنا۔

○ البنجاب: پنجاب۔ پاکستان کا ایک صوبہ (ہندوستان میں اس کا مشرقی حصہ ہے)۔

○ بَنْجَر: سرخ چقندر۔

بند: ا۔ البَنْد جمع بُنُود: بڑا جھنڈا، جھیل، کتاب کی فصل یا اس کا فقرہ، قید، حیلہ۔ کہا جاتا ہے: فلان کثیرُ البُنُود: فلاں شخص بڑا حیلہ ساز ہے (فارسی لفظ)۔

۲۔ البَنْدَر جمع بَنادِر: بندرگاہ، ساحلی شہر، لنگرگاہ، تاجروں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ الشاہ بندر: بڑا تاجر۔

۳۔ البَنْدِير (د): بڑا ڈھول۔

۴۔ بَنادُورَة (ن): دیکھو طماطم۔

۵۔ البَنْدِيرة: جھنڈا (اٹلی زبان کا لفظ)۔

۶۔ بَنْدَقَ اليه: کی طرف تیز نظر سے دیکھنا۔ البُنْدُق واحد بُنْدُقة (ن): ایک درخت کا نام، بندوق کی گولی۔ البُنْدُقِيَّة (ا ع): بارود۔ البندقية الرشاشة: بندوق، رائفل، مشین گن۔ البندقية المتواترة: ایک دفعہ بھرنے سے کئی فائر کرنے والی بندوق۔

○ بَنْد جمع بُنُود: (قانون، ٹھیکہ وغیرہ کی) دفعہ، شق، پیرا، فقرہ، عبارت کا ایک ٹکڑا، جھنڈا، فوجی دستہ کا ایک بڑا گروہ۔

○ بَنْدَر جمع بنادِر: بندرگاہ، تجارتی مرکز، ضلع کا صدر مقام، بندر عباس (جنوبی ایران کی بندرگاہ)۔

○ بُنْدُق (واحد بُنْدُقَة جمع بنادق: ایک جھاڑی (ہیزل) کا گری دار میوہ، ہیزل hazel، ہیزل کا درخت۔ بُنْدُقَة: ایک جھاڑی کا گری دار میوہ، گولی۔ bullet۔ بُنْدُقِي: وینس شہر کی چمکدار ٹکیا جو کپڑوں پر سلائی کی جاتی ہے۔ بُنْدُقِية جمع بنادِق: رائفل، گن gun۔ بندقية رش: شاٹ گن shot gun۔ البُنْدُقِية: وینس (ایک شہر کا نام)۔ بُنْدُقانی جمع بندقانیون و بَنادِقة: وینس شہر کا باشندہ۔ بُنْدُوق جمع بَنادِيق: حرامی، حرام زادہ، ناجائز اولاد، ولد الزنا۔

○ بَنْدُورَة: ٹماٹر (جمع)۔ احمر بَنْدُوري: سرخ ٹماٹر۔

○ بَنْدُول: پنڈولم Pendulum۔

○ بَنْدِيرَة جمع بنادِر: جھنڈا، لمبی تکونی جھنڈی، پرچم، پھریرا، مطالبے والا جھنڈا۔

○ بَنُّور = بَلُّور: شیشہ۔

○ بَنزَهِير: زہر مہرہ bezoar، bezoar stone

○ بَنْزِين: بنزین، گیسولین gasoline، پٹرول۔

○ بِنِسْلِين: پنسلین penicillin۔

○ بَنْسِيه: پنتری، بن سکھ (ایک پھولدار پودا)۔

○ بَنْسِيُون جمع بنسیونات: بورڈنگ ہاؤس، بورڈنگ سکول۔

بنز: البِنْزِين: پٹرول، بنزین۔

بنس: ا۔ بَنِسَ ـ بَنْسًا و اَبْنَسَ: شر اور برائی سے بھاگنا۔ بَنَّسَ عنه: کسی سے پیچھے ہونا۔

۲۔ بِنِسِلِين (طب): داخلی اور خارجی التہابات کی دوا، پنسلین (penicillin)۔

بنص: البِنْصِر ج بَناصِر (ع ا) مونث: چھنگلیا اور بیچ کی انگلی کے درمیان والی انگلی۔ ring finger۔

بنط: بنطلون: پتلون، عربی میں سراویل بھی کہتے ہیں۔

○ بُنْط جمع بُنُوط: پیمائش یا قیمت کا یونٹ (شاک مارکیٹ میں)۔

○ بَنْغازِي: شمال مشرقی لیبیا کے ایک شہر کا نام۔

○ البَنْغال: بنگال (شمال مشرقی برصغیر کے ایک علاقہ کا نام)۔

بنف: البَنَفْسَج. واحد البَنَفْسَجَة (ن): بنفشہ۔

○ بَنَفْسَجِي: بنفشہ جیسا، بنفشی رنگ کا، بنفشہ کا۔ فوق البنفسجي یا وراء البنفسجي: ماورائے بنفشی، بالائے بنفشی، بنفشی شعاعوں سے باہر کا۔

○ بَنَفْش۔ بَنَفْش: ارغوانی یا بنفشی رنگ کا قیمتی پتھر، یاقوتِ ارغوانی۔

بنق: بَنَقَ ـ بَنْقًا و اَبْنَقَ اليه: کے پاس یا کسی تک پہنچنا۔ بَنَّقَ بالمكان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ ـ الكلامَ: کلام کو جمع کرنا، ٹھیک اور درست کرنا۔ ـ الكذبَ: جھوٹ گھڑنا، جھوٹ کو پسندیدہ بنانا اور مزین بنانا۔ ـ الشيءَ: کسی چیز کا قلادہ ڈالنا۔ ظهرهٗ بالسوط: پیٹھ کو کوڑے سے زخمی کرنا۔ ـ القميصَ: قمیص میں گریبان لگانا، قمیص کا گلا بنانا۔ ـ اليه: تک پہنچنا۔ البَنِيقَة و البَنِقَة: گریبان۔ مُبَنَّق: طريقٌ مُبَنَّق: کشادہ راستہ۔

○ بِنِقَة و بَنِيقَة: فالتو کپڑا جو لباس کو مضبوط بنانے کے لئے لگائیں۔

بنك: ا۔ بَنَّكَتِ الجاريتان: دو لڑکیوں کا اپنے اپنے محلہ سے نکل کر ایک دوسرے کو اپنے گھر والوں کی خبریں سنانا۔

۲۔ تَبَنَّكَ بالمكان و فيه: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـ في عزّة: اپنی عزت میں مضبوط ہونا۔

۳۔ البَنْك جمع بُنُوك: بینک، اس کی ...

کہا جاتا ہے: مَضَى بُنْكٌ من الليل: رات کی ایک گھڑی گذر گئی۔

۴۔ بنكرياس او لوزة المَعِدَة (ع ا): معدے کے پیچھے کی ایک بڑی گلٹی (غدۃ) جو ہضم حیات جوہر کی رطوبت خارج کرتی ہے۔

○ بُنْك: جڑ، گودا، مغز، دل، بہترین حصہ۔ بُنْك العمر: عمر کے بہترین سال، عنفوانِ شباب۔

○ بَنْك التسليف: قرض دینے والا بنک۔ بنك التوفير: رقم جمع کرنے کا بنک۔ بنك الدم: وہ جگہ جہاں، ہسپتالوں وغیرہ کو فراہم کرنے کے لئے خون رکھا جاتا ہے۔ بلڈ بنک blood bank۔ البنك الدولي: عالمی بنک world bank۔ مُبَنَّك: یکا وتنہا، بے یار و مددگار۔ مُحَنَّك مُبَنَّك: زیرک، سمجھ دار، ہوش مند، عیار، مکار، کایاں، چالاک، ہوشیار، سیانا، دانا، تیز فہم۔

○ بَنْكَنُوت: بینک نوٹ banknote۔

بنی: ا۔ بَنَى ـ بَنْيًا و بِناءً و بُنْيانًا و بِنْيَةً و بِنايَةً البيتَ: گھر تعمیر کرنا۔ ـ الارضَ: زمین کو گھروں سے آباد کرنا۔ بَنَّاهُ تَبْنِيَةً: کو بنانا، تشدید کثرت کیلئے ہے۔ اَبْنَاهُ: کو مکان دینا یا سامان تعمیر عطا کرنا، سے مکان بنوانا۔ بَانَاهُ: کا تعمیر میں مقابلہ کرنا۔ تَبَنَّى الرجلُ: بنے ہوئے گھر کے مانند ہونا۔ کہا جاتا ہے: اذا جلستْ تَبَنَّتْ: جب وہ بیٹھتی ہے تو گھر کے مانند معلوم ہوتی ہے۔ اِبْتَنَى بيتًا: گھر بنانا۔ اِسْتَبْنَى المنزلُ: مکان کا منہدم ہو جانا اور تعمیر کا طالب ہونا۔ البناء جمع اَبْنِيَة و جمع الجمع اَبْنِيات: مکان، عمارت، گھر۔ کہا جاتا ہے: بِناءً عليه: اس بنا پر، بنا بریں اس وجہ سے: نصب مفعول له ہونے کی وجہ سے ہے۔

البَانِي (ج) بُناة مونث بَانِيَة جمع بَوانٍ: بنانے والا، بانی۔ کہا جاتا ہے: بنى البيت على بَوَانِيه: اس نے گھر کو اس کی بنیادوں پر اٹھایا۔ حائط على بانيتين: دو بنیادوں پر بنی ہوئی دیوار۔ البُنْيَة جمع بُنًى و بِنًى: ڈھانچہ۔ البِنْيَة جمع بُنًى و بِنًى: ڈھانچہ، جسم کی ساخت، فطرت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ صحيح البنية: فلاں شخص صحیح الجسم ہے۔

البِنَايَة: بنی کا ایک مصدر، بڑا گھر، بڑی عمارت جس کی کئی منزلیں اور طبقے ہوں۔ البُنْيان (مص): عمارت۔ کہا جاتا ہے: كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ: گویا وہ لوگ ایک مضبوط عمارت (کے مانند) ہیں۔ البَنَّاء جمع بَنَّاؤُون: معمار۔

المَبَانِي: عمارتیں۔

۲۔ بَنَى - الرجلَ: سے بہتر سلوک کرنا۔ اِبتَنَى الرجلَ: سے بہتر سلوک کرنا، پر احسان کرنا۔

۳۔ بَنَى - الطعامُ بدنَهُ: کھانے کا بدن کو فربہ کرنا۔

۴۔ بَنَى - على كلامِهِ: کے کلام کی نقل کرنا۔

۵۔ بَنَى - على أهلِهِ و بأهْلِهِ اى عروسِهِ: پہلی رات بیوی کے پاس جانا۔ اِبتَنَى على اهله و بها اى عروسه: پہلی رات شوہر/بیوی کے پاس جانا۔ اِستَبنَى الرجلُ: دلہن لانا، شادی کرنا۔

۶۔ بَنَى - الكلمةَ: کلمہ کو مبنی بنانا، لفظ کو اس کا صیغہ دینا۔ البِنيَةُ في الكلمة: لفظ کا صیغہ اور مادہ جس سے اسے بنایا جائے جیسے مضارع سے امر کا صیغہ بنانا۔ حروف المباني: حروف تہجی۔

۷۔ تَبَنَّى ہ: کو بیٹا بنانا، کو متبنی بنانا۔ اِبْتَنَى الرجلُ: بیٹوں والا ہونا۔ الابن جمع بُنُون و ابْنَاء مونث اِبنَة: بیٹا۔ تصغیر: بُنَيّ نسبت: اِبنِيّ اور بَنَوِيّ ابنُ بَطْنِه: اپنے پیٹ کی فکر میں ہی رہنے والا۔ ابن جلا: مشہور آدمی۔ ابن ذُكَاء: صبح۔ ابن السبيل: مسافر۔ ابن الطود: صدائے بازگشت۔ ابن ليلِها: بڑے کام والا۔ ابن يومِه: وہ شخص جو صرف آج ہی کی سوچے، کل کی نہیں۔ البُنُوَّة: فرزندی، بیٹا ہونا۔ الاِبْنُم: بیٹا، میم زائد ہے مبالغہ کے لئے۔ اعراب میں نون میم کے تابع رہتا ہے۔ البِنت جمع بَنَات: بیٹی نسبت: بِنتِيّ و بَنَوِي۔ بنتُ الارض: کنکری۔ — الشفة: کلمہ، لفظ۔ — العنقود او الكرم: شراب۔ — العين: آنسو۔ — اليمن: قہوہ۔ بناتُ الارض: چھوٹے دریا، چھوٹی ندیاں۔ — الليل و بنات الصدر: افکار۔

۸۔ بنت جمع بنات القنصل (ن): ایک قسم کی نباتات، اسکی ٹہنیوں پر لمبے پتے لگتے ہیں، گرم آب و ہوا یا بحر ابیض متوسط میں اگائی جاتی ہیں۔ ان کا اصل وطن میکسیکو ہے۔ — وَرْدَان او صرصور (ح): حشرات الارض کی ایک قسم۔ بناتُ نعش الكُبرىٰ (فلک): وہ سات ستارے جو قطب شمالی کے پاس دکھائی دیتے ہیں اور اسی طرح بنات نعش الصغرىٰ بھی۔ النجمة القطبية قطب ستارہ۔

۹۔ البِناية: شرف۔ البِنيَةُ (ف ج): فریم (تصویر کا)۔ البواني (ع ا): سینہ کی پسلیاں، اونٹنی کی ٹانگیں۔ بُنَيَّات الطريق: بڑی سڑک سے نکلنے والے چھوٹے راستے۔ دَعْ بنيات الطريق: بڑے کام کو سنبھالو اور مکر و فریب کو چھوڑو۔

○ بَنَى - بِنَاءً و بُنيَانًا و اِبْتَنَى ہ: کو بنانا، تعمیر کرنا، کھڑا کرنا، نصب کرنا۔ — ہ على: کو پر بنانا، کو مستقبل بنیادوں پر استوار کرنا، قائم کرنا، پر ٹیک لگانا، کو پر مبنی کرنا۔ — بها یا عليها: عورت سے خلوت صحیحہ کرنا۔ بُنِيَ على: پر مبنی ہونا، پر بنا ہوا ہونا، پر ٹیک لگانا۔ بَنَى كلمةً على: لفظ کو مبنی بنانا۔ تَبَنَّى ہ: کو بیٹا بنانا، کو متبنی بنانا۔ — ہ: کو اختیار کرنا، قبول کرنا۔ بِناء: عمارت، تعمیر، تنصیب، ڈھانچہ، ڈھانچ، بناوٹ ساخت، نظام، انتظام، بندوبست۔ جمع اَبنِيَة: عمارت ڈھانچہ، ڈھانچ، شاندار عمارت۔ اعادةُ البِناء: دوبارہ تعمیر۔ البِناءُ الحُرّ: فری میسن نظام free masonry۔ بِناءً على: کے مطابق، کی بنیاد پر، کی بنا پر، کیوجہ سے، کے باعث، کی سند سے۔ بناءً على هذا: اس لئے، چنانچہ، لہٰذا، بدیں وجہ، اس طرح، یوں۔ اس حد تک، اتنا۔ بِنائي: تعمیری، ترکیبی، تعبیری، تفسیری، عمارت کا، عمارتی، ساخت یا بناوٹ کے متعلق۔ بِنيَة و بُنيَة جمع بِنًى و بُنًى: تعمیر، ساخت، بناوٹ، نظام، انتظام، بندوبست۔ بِنية: وضع، بناوٹ، ساخت، انسان کی کاٹھی، چوکھٹا، مزاج یا ذہن کی حالت، ڈھانچہ، تصویر کا چوکھٹا یا خانہ، جسمانی ساخت، جسم، طبعی یا فطرتی ساخت، سیرت، بناوٹ یا خصلت۔ ضعيف البِنيَة: نازک ساخت کا۔ صحيح البنية: صحت مند ساخت کا، مضبوط اور درست جسم والا، صحیح کاٹھی کا، صحت مند۔ سليم البِنيَة: صحت مند، صحت مند و مضبوط اور درست جسم اور کاٹھی والا۔ قَوِيُّ البِنيَة: ہٹا کٹا، قوی ہیکل۔ بَنَّاء جمع بَنَّاؤُون: بنانے والا، تعمیر کنندہ، معمار، تعمیری۔ بَنَّاءٌ حُرّ: فری میسن (freemason)۔ بِنايَة جمع بِنايات: عمارت، تعمیر، شاندار عمارت۔ بُنيان: عمارت، تعمیر، تنصیب، شاندار عمارت، جسم کی ساخت، جسم، قد و قامت۔ مَبنَى: عمارت، تعمیر، تنصیب، ساخت، بناوٹ، شاندار عمارت، شکل، بنیاد۔ الرأي و المَبنَى: مضمون اور شکل۔ بَانٍ: بنانے والا، تعمیر کرنے والا۔ مَبنِيّ: بنا ہوا، نصب کیا ہوا، تعمیر کیا ہوا۔ — على: پر استوار شدہ، پر مبنی، پر ٹیک لگایا ہوا۔ —: مقررہ، قائم شدہ، ناقابل گردان، غیر صرفی۔

○ بنيو: حمام، ٹب (نہانے کا)۔

بها: بَهَأَ - و بَهِئَ - و بَهُؤَ - بَهْأً و بَهَاءً و بُهُوءًا لَهُ: کو سمجھنا۔ کہا جاتا ہے: مابَهَأْتُ لَهُ و مابَأَهْتُ لَهُ: میں اس کو نہیں سمجھتا۔ — و اِبتَهَأ بہ: سے مانوس ہونا۔ بَهَأ - بَهْأً و أَبهَأ البيتَ: گھر کو سامان سے خالی کرنا۔

بهت: ۱۔ بَهَتَ - بَهْتًا ہ: کو اچانک پکڑ لینا۔ بَهِتَ - و بَهُتَ - و بُهِتَ بَهْتًا و بَهَتًا: ہکا بکا رہ جانا، حیرانی سے خاموش اور دم بخود ہونا۔ بَهَتَ و بَاهَتَ ہ: کسی پر جھوٹ بول کر ہکا بکا کر دینا۔ البَهُوت جمع بُهُت: جھوٹ بول کر سامع کو حیران و ششدر کرنے والا۔ البَهِيتَة: حیرانی۔

۲۔ بَهَتَ - بَهْتًا و بُهتَانًا ہ: پر بہتان لگانا، تہمت لگانا صفت: بَهَّات و بَهُوت جمع بُهُت۔ بَاهَتَ الرجلُ: بہتان لگانا۔ البَهِيتة و البُهت و البُهتان: جھوٹ، بہتان۔

○ بَهِتَ - و بَهُتَ - و بُهِتَ بَهْتًا: حیران ہونا، ششدر رہ جانا، حیرت میں پڑ جانا، متعجب ہونا، متحیر ہونا، حواس باختہ ہو جانا، چونکنا، گھبرا جانا، الجھ جانا، شبہ یا پریشانی میں پڑ جانا، گومگو میں مبتلا ہو جانا، شش و پنج میں پڑ جانا، بے زبان یا گونگا ہو جانا۔ بَهَتَ - ہ: کو حیران و ششدر کرنا، حیرت میں ڈال دینا، متحیر کرنا، حواس باختہ کرنا، چونکا دینا، گومگو میں مبتلا کرنا، شش و پنج میں ڈالنا، چکرا دینا، بدحواس کر دینا۔ — بُهتانًا ہ: کو بدنام کرنا، پر تہمت لگانا، کے نام کو بٹہ لگانا، پر عیب لگانا، کو رسوا کرنا۔ بَاهَتَ ہ: پر اچانک آ جانا، نازل ہونا، کو چونکا دینا، پریشان کرنا، چکرا دینا، بدحواس کر دینا، کو گومگو میں رکھنا، شش و پنج میں ڈالنا، حیران و ششدر کرنا۔ أَبهَتَ ہ: کو یکا یک آلینا، یکا یک آ کر گھبرا دینا، ششدر کرنا، حیرت میں ڈالنا، حیران کرنا، متعجب کرنا، متحیر کرنا، حیران کرنا۔ اِبتَهَتَ: بمعنی بَهِتَ و بَهُتَ و بُهِتَ۔ بُهت و بُهتان: جھوٹ، جھوٹا الزام، تہمت۔ بَهتَة: تعجب، حیرت، اچنبھا، تحیر، پراگندگی، بوکھلاہٹ، پریشانی، گھبراہٹ، حیرانی، بدحواسی، بے ہوشی، مدہوشی۔ بَاهِت: پیلا، ہلکا زرد، دھندلا، زرد، بے رونق، ماند پڑا ہوا، مرجھایا ہوا، ماند، پھیکا، اڑا ہوا (رنگ)، حیران و پریشان، متحیر، الجھن میں مبتلا، شبہ یا پریشانی میں پڑا ہوا، ششدر، ہکا بکا، سہما ہوا، خوف زدہ۔ مَبهُوت: حیران و پریشان، الجھن، شبہ یا پریشانی میں مبتلا، ششدر، ہکا بکا، سہما ہوا، خوف زدہ، گومگو کی حالت میں، شش و پنج میں مبتلا سراسیمہ۔

بهج: ۱۔ بَهَجَ - بَهْجًا و أَبهَجَ ہ: کو خوش کرنا، مسرور کرنا۔ بَهِجَ - بَهَجًا بہ: پر خوش و مسرور ہونا

صفت: بَهِج و بَهِيج۔ اِبْتَهَجَ و تَبَهَّجَ و تَبَاهَجَ و اِسْتَبْهَجَ بِـه: پر یا سے خوش ہونا، مسرور ہونا۔ البَهْجَة: سرور، خوشی، خوشی کا ظہور۔ البَهِج: مسرور، خوش۔

۲۔ بَهُجَ - بَهَاجَةً و بَهَجَاناً: خوبصورت ہونا صفت: بَهِيج مونث مِبْهَاج۔ بَهَّجَ هُ: کو خوبصورت بنایا۔ بَهَّجَ اللّٰهُ وَجْهَهُ: اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ خوبصورت بنایا۔ بَاهَجَ ہ: کا خوبصورتی میں مقابلہ کرنا اور فخر کرنا۔ أَبْهَجَ و تَبَاهَجَ المكانُ: جگہ کا سرسبز و شاداب ہونا۔ تَبَهَّجَ: خوبصورت ہونا۔ البَهْجَة: خوبصورتی، سرسبزی و شادابی، تروتازگی۔

○ بَهِجَ - ب: کے بارے میں خوش ہونا، پر خوش و مسرور ہونا، سے محظوظ ہونا۔ بَهُجَ: خوبصورت ہونا، حیرت انگیز دکھائی دینا۔ أَبْهَجَ ہ: کو خوش کرنا۔ اِبْتَهَج ب: کے بارے میں خوش ہونا، سے محظوظ ہونا۔ بَهْجَة: شان و شوکت، چمک دمک، آب و تاب، خوبصورتی، حسن، جمال، کروفر، رونق اور شان، خوشی، مسرت، سرور، شاندار درخشانی۔ بَهْجَةُ الأَنظار: آنکھوں کی فرحت خوشگوار منظر یا نظارہ۔ بَهِيج و بَهِج: پر شکوہ، شاندار، خوبصورت، خوش، مسرور، شاداں، راحت بخش، مسرت بخش۔ مَبَاهِج: خوشیاں، مسرتیں، تفریحات، شاندار چیزیں، شان و شوکت، شان و شکوہ، چمک دمک، آب و تاب۔ کروفر، رونق اور شان۔ مَبْهَجَة: خوشی کا لمحہ۔ مُبْهِج: خوشگوار، دلکش، دل فریب، دل ربا، پسندیدہ مرغوب، راحت بخش، مسرت بخش۔ مُبْتَهِج: خوش، مسرور۔

بہر: ۱۔ بَهَرَ - بَهْراً ہ: پر غالب آنا، فضیلت میں سبقت لیجانا۔ ـــ الرجُلُ: اپنے ہم عمروں پر فوقیت لیجانا۔ ـــ القمرُ: چاند کی روشنی کا ستاروں کی روشنی پر غالب آنا۔ ـــت فلانةٌ النساءَ بَهْراً و بُهُوراً: عورتوں پر حسن میں غالب آنا۔ بَاهَرَہ مُبَاهَرَةً و بِهَاراً: کا فخر میں مقابلہ کرنا۔ أَبْهَرَ: عجیب کام کرنا۔ البَهَار: خوبصورتی، حسن جمال۔

۲۔ بَهَرَتِ - بَهْراً و بُهُوراً الشمسُ: سورج کا روشن ہونا۔ تَبَهَّرَتِ السحابةُ: بادل کا چمکنا۔

۳۔ بَهَرَ - بَهْراً فلاناً: پر بہتان لگانا۔ أَبْهَرَ: متلون الاخلاق ہونا۔ اِبْتَهَرَ: کوئی کام کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرنا۔ ـــ ہ: پر سچا عیب لگانا۔

۴۔ بَهَرَ - بَهْراً فلاناً: کو ہانپا دینا۔ بُهِرَ و اِنْبَهَرَ: سخت دوڑ کے باعث ہانپنے لگنا۔ صفت: بَهِر و مَبْهُور۔ اِنْبَهَر: کسی بات کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ اِبْتَهَر: پوری پوری کوشش کرنا۔ البُهر: ہانپنا۔ کہا جاتا ہے: بُهْراً لَهُ: اس کے لئے ہلاکت ہو۔ البَهِيرَة جمع بَهَائِر: موٹے سرین والی شریف عورت جو چلنے میں تھک جائے اور ہانپنے لگے۔

۵۔ أَبْهَرَ: مفلسی کے بعد غنی ہو جانا۔ تَبَهَّرَ الإناءُ: برتن کا بھر جانا۔

۶۔ أَبْهَرَ: گرمی میں داخل ہونا۔ اِبْتَهَرَ السيفُ: تلوار کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ اِبْهَارَّ الليلُ او النهارُ: رات یا دن کا آدھا ہونا۔ البُهْرَة من المكان و الزمان: جگہ کا اور زمانہ کا وسط۔

۷۔ اِبْهَارَّ علينا الليلُ: (ہم پر) رات کا دراز ہونا۔ ـــ و اِسْتَبْهَرَ الليلُ: رات کا بہت تاریک ہونا۔

۸۔ البَهَار (ن): ایک خوشبودار پودا جس کو عَيْنُ البقر یا بَهَارُ البَرّ بھی کہتے ہیں۔ البُهار: بت، ابابیل، دھنی ہوئی روئی سفید مچھلی۔ الأَبْهَر: پیٹھ (کہا جاتا ہے: فلانٌ شديد الأبهر۔ فلاں شخص مضبوط پیٹھ والا ہے)۔ گردن کی شہ رگ۔ ذو أَبْهَرِيه: پیٹ والا۔ الأَبْهَران (ع ا): دل سے نکلنے والی دو رگیں جن سے شرائین شاخ در شاخ ہو گئی ہیں۔ ما زال يراجعه الالم حتى قطع ابهره: اسے تکلیف ہوتی رہی یہاں تک کہ تکلیف نے اس کو ہلاک کر ڈالا۔ البَاهِرَة (ن): خاردار پتوں والا ایک پودا جو ایک دوسرے سے لپٹ کر سایہ پیدا کرتے ہیں، آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے، ساری عمر میں ایک بار پھول لگتے ہیں۔

○ بَهْدَلَ ہ: کی توہین کرنا، سے کمینے پن کا اور حقارت آمیز سلوک کرنا، کو بے نقاب کرنا، کا مذاق اڑانا، کو اضحوکہ بنانا۔ تَبَهْدَل: توہین کیا جانا، حقارت آمیز سلوک کیا جانا، بے نقاب ہونا، اضحوکہ بننا۔ بَهْدَلَة: توہین، گالی، انتہائی ظلم، شرمناک بے عزتی، کمینگی، فرسودگی، عامیانہ پن، بے مزگی، بے کیفی۔ مُبَهْدَل: جس پر ظلم کیا گیا ہو، مصیبت زدہ، جس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہو۔

○ بَهَرَ - بَهْراً و أَبْهَرَ: چمکنا، دمکنا۔ ـــ ہ/ ہ: کو چندھیانا، خیرہ کرنا، چندھیا دینا، گھیرے میں لے لینا۔ شيءٌ يبهر الأبصار: خیرہ کن، چندھیا دینے والی چیز، نا قابل برداشت چیز۔ بُهِرَ: ہانپنا، سانس پھول ہوئی ہونا۔ اِنْبَهَر: چندھیا جانا، اندھا ہو جانا، اندھے پن کا شکار ہونا، سانس پھول جانا۔ اِبْتَهَر: کو ابھار کر فخر سے دکھانا، کی نمود و نمائش کرنا، کی شان دکھاتے پھرنا، کو نمایاں کرنا، کو خیرہ کن روشنی میں پیش کرنا۔ بُهِرَ ب: سے فریب خوردگی، خیرگی۔ بُهْر: مشکل سے سانس لینا۔ بَهْرَة: چندھیا جانا، خیرہ ہو جانا، خیرگی۔ بُهْرَة: وسط، درمیان۔ في بُهْرَةِ ـــ: کے درمیان، کے دوران میں۔ أَبْهَر: زیادہ چمکدار، زیادہ شاندار، زیادہ پر شکوہ۔ أَبْهَر: رگ جان، شہ رگ۔ بَهَار جمع بَهَارَات: گرم مسالہ۔ اِبْتِهَار ب: کا خیرہ کن مظاہرہ یا نمائش۔ بَاهِر: خیرہ کن، شاندار، چمکدار۔ مَبْهُور: ہانپتا ہوا، پھولی سانس والا۔

بہرج: ۱۔ بَهْرَجَ الدماءَ: حق خون باطل کرنا، خون مباح کرنا۔ ـــ المكانَ: کو رفاہ عام کے لئے رکھنا۔ مَكَانٌ بَهْرَجٌ: رفاہ عام کی جگہ، وقف کی جگہ۔ تَبَهْرَجَ المكانُ: چراگاہ کا رفاہ عام کے لئے ہونا۔

۲۔ بَهْرَجَ بهم الدليلُ: راہنما کا لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے لیجانا۔ البَهْرَج: باطل، ردی۔ (لؤلؤ بَهْرَجٌ: ردی موتی): کھوٹا درہم۔

۳۔ تَبَهْرَجَتِ المرأةُ: عورت کا بناؤ سنگار کرنا۔ ـــ: تکبر کرنا۔

○ بَهْرَجَ بَهْرَجَةً: سجانا، آرائش کرنا، آراستہ کرنا، سج دھج کرنا، سنوارنا، مرصع کرنا۔ ـــ ہ: کو دھوکے میں ڈالنے والی چمک دینا، کو نظر فریب بنانا۔ ـــ ہ: گواہ کو جھوٹا قرار دے کر مسترد کرنا۔ ـــ ہ: کسی چیز کو ملمع کر کے پیش کرنا، کو جعلی بنانا۔ تَبَهْرَجَ: سجنا، آراستہ ہونا، سنورنا، بناؤ سنگار کرنا، بہترین لباس پہننا، جعلی ہونا۔ بَهْرَج: جعلی، نقلی، بناوٹی، کھوٹا، مصنوعی، نکما، ناقص، بے کار، برا، جعلی روپیہ، بھڑک دار، گھٹیا سجاوٹ، سستی بناؤ سنگار کی چیزیں، رذی چیز، فضول شے، سستا مال۔ بَهْرَجَة: خالی خولی نمائش، ٹیپ ٹاپ، دکھاوا یا تماشہ، کھوکھلی شان و شوکت۔ بَهْرَجَان: بھڑک دار، گھٹیا سجاوٹ۔ مُبَهْرَج: بھڑکیلا، بھڑکیلا اور بھونڈا، بھڑک دار اور بھدا، زرق برق۔ مُرَصَّع مزین، بڑی زیبائش والا، دکھاوے کا شوقین، فضول، بے کار، بیہودہ، سستا، بھدا، بھونڈا، بدنما، بدذوق، بے ذوق۔

○ بَهْرِيز: یخنی، شوربہ، آبجوش، ماء اللحم۔

بہرم: ۱۔ بَهْرَمَ بَهْرَمَةً شعرَهُ: بالوں کو مہندی سے رنگنا۔ تَبَهْرَمَ: مہندی سے سرخ ہونا۔ البَهْرَم: حنا، مہندی۔ ـــ و البَهْرَمَان: زردی رنگ کا رنگنے کا

مسالہ۔ البَهرَمَة: کلی کے شگوفے۔

۲۔ البَهرَمَة: اہلِ ہند کی عبادت، برہمنوں کی عبادت۔

بهز: بَهَزَ ۔ بَهزًا و اَبهَزَه: کو سختی سے ہٹانا، پر غالب آنا۔ البِهَز: سختی سے ہٹانے والا۔

بهش: ۱۔ بَهِشَ ۔ بَهَشًا الیه: کے پاس خوش خوش آنا، کا مشتاق ہونا۔ البَهِش من الرجال: شگفتہ پیشانی والا آدمی۔

۲۔ بَهَشَ ۔ بَهشًا بیده الیه: لینے کے لئے کی طرف ہاتھ بڑھانا۔ ۔ للبکاء: رونے کے لئے تیار ہونا۔ ۔ عنه: کی چھان بین کرنا۔

۳۔ تَبَهَّشَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا۔

۴۔ البَهش: تر گوگل جو ایک درخت کا پھل ہے۔ البَهشِیَّة (ن): ایک جنگلی درخت جس کی لکڑی عمدہ ہوتی ہے اور دستے وغیرہ بنانے کے کام آتی ہے۔

بهص: بَهصَلَ و تَبَهصَلَ: کپڑے اتار کر جوئے میں بازی پر لگانا۔ بَهصَلَ القومَ من مالهم: کو ان کے مال سے نکالنا۔

بهظ: ۱۔ بَهَظَ ۔ بَهظًا و اَبهَظَهُ الحملُ او الامرُ: کو حمل یا کام کا بوجھل کرنا اور مشقت کا سبب بننا۔ الباهِظَة: مشقت واذیت کا باعث۔ جس سے مشقت یا اذیت پیدا ہو (مؤنث)، مصیبت۔ المَبهُوظ: طاقت سے زیادہ تکلیف دیا ہوا۔ القرنُ المبهوظ: مغلوب ساتھی یا مدِ مقابل۔

۲۔ اَبهَظَ حوضَهُ: کا حوض بھرنا۔

○ بَهَظَ ۔ بَهظًا ه: پر ظلم کرنا، کو بوجھ تلے پیس ڈالنا، (کام کا یا بوجھ کا) پر زیادہ بوجھ ڈالنا۔ اَبهَظَ ه: بمعنی بَهَظَ ه۔ باهِظ: بھاری، سخت یا مار ڈالنے والا، صبر آزما، تکلیف دہ، حد سے زیادہ، فزوں از حد، بہت زیادہ، بہت ہی، بے انداز، مہنگا، گراں، گراں بہا، قیمتی، بیش قیمت۔

بهق: البَهَق: جسم پر سفید داغ جو برص کا نہ ہو۔ بَهَق الحجر (ن): کائی سے مشابہ چٹانوں پر پھوٹنے والی ایک قسم کی گھاس۔

○ بَهَق: ایک قسم کی کائی، جلدی مرض، داد، کھجلی، کھاج، کوڑھ کی ایک نرم شکل۔

بهل: ۱۔ بَهَلَ ۔ بَهلاً ه اللّٰهُ: پر اللہ تعالیٰ کا لعنت بھیجنا۔ باهَلَ بعضُهُم بعضاً: ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا۔ تَبَهَّلوا و تباهلوا: ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا۔ اِبتَهَلَ الرجلان: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ البَهلة و البُهلَة: لعنت۔

۲۔ بَهَلَ ۔ و اَبهَلَ ه: کو ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ بَهَلَ ۔ و استَبهَلَ الوالی رعیّتَه: حاکم کا رعایا کو آزاد چھوڑ دینا کہ جو چاہے کرے۔ بَهَلَت ۔ بَهلاً الناقةُ: اونٹنی کے تھن کھول کر بچہ کو دودھ پینے دینا۔ الباهِل جمع بُهل و بُهَّل من النوق: وہ اونٹنی جس کے تھنوں پر کوئی بندش نہ ہو۔ ـــ: بے ہتھیار نہتا، لاٹھی کے بغیر چرواہا، بغیر کسی کام کے آنے جانے والا۔

۳۔ اِبتَهَلَ اِلی اللّٰه: اللہ تعالیٰ سے بعجز وانکساری دعا کرنا۔ البُهلُول جمع بَهالِیل: جامع الفضائل سردار، بہت ہنسانے والا۔

۴۔ البَهلَوان: رسی پر چلنے والا نٹ۔

○ بَهَلَ ۔ بَهلاً ه: پر لعنت بھیجنا، کو بد دعا دینا۔ تَبَهَّلَ و تَباهَلَ: ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا، ایک دوسرے کو بد دعا دینا۔ اِبتَهَلَ (اِلی اللّٰه): سے عاجزی سے دعا کرنا، التجا کرنا۔ اِبتهال: دعا، التجا۔ باهِل جمع بُهَّل: آزاد۔ بُهلُول جمع بَهالِیل: مسخرہ، بھانڈ، نقال، بے وقوف۔

○ بَهلَوان جمع بَهلَوانات: بازی گر، نٹ، رسی پر ناچنے والا، رسی پر چلنے والا۔ بَهلَوانی: بازی گرانہ۔ حرکات بهلوانیة: بازی گری، مضحکہ خیز حرکات، لا اُبالی پن، بازی گر کی کود پھاند، اچھل کود۔ طیران بهلوانی: ہوائی بازی گری، کرتبوں والی اڑان، پرواز۔

بهم: ۱۔ بَهَمَ بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہو کر وہیں رہ پڑنا۔ اَبهَمَ ه عن الامر: کو سے روکنا، ہٹانا۔

۲۔ بَهَّمَ البَهمَ: (گائے، بھیڑ، بکری) کے بچہ کو ماں سے جدا کر کے اکیلے چرانا۔ البَهم و البِهَم و البِهام: واحد بَهمة و البَهمَة: (گائے، بھیڑ بکری کا) بچہ۔ البَهِیمة جمع بَهائم: خشکی و تری کا ہر چوپایہ، سوائے درندوں اور پرندوں کے۔

۳۔ اَبهَمَ المکانُ: جگہ کا بہمیٰ اُگانا۔ البُهمیٰ (ن): جو جیسا پودا۔

۴۔ اَبهَمَ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ ـــ الامرَ: کو چھپانا۔ تَبَهَّمَ و اِستَبهَمَ الامرُ علیه: پر معاملہ مشتبہ ہونا، دشوار و مشکل ہونا۔ اُستُبهِمَ علیه: شور مچنے کی وجہ سے گفتگو نہ کر سکنا۔ البُهَم: مشکل امور۔ البُهمَة جمع بُهَم: سخت و مشکل کام: وہ بہادر جس پر کسی ہمسر کا بس نہ چلے۔ البَهِیمة: ہر وہ جانور قوت گویائی سے محروم ہو۔ البَهِیم (مص): امرٌ مُبهَم: انجان بات۔ کلامٌ مُبهَم: غیر معروف کلام۔ طریق مُبهَم: بے دیکھا بھالا راستہ۔ حائط مُبهَم: بے دروازہ دیوار۔ الأبهَم جمع بُهم: گونگا۔

۵۔ البُهمَة جمع بُهَم: چٹان۔ البَهِیم جمع بُهم و بُهُم: سیاہ، کالا۔ کہا جاتا ہے: فرسٌ بَهِیم: یک رنگا گھوڑا۔ لیلٌ بَهِیم: ساری تاریک رات۔ الإبهام جمع أباهِم و أباهِیم: انگوٹھا۔ (مؤنث ہے کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے)۔

○ أبهَمَ ه: کو غیر واضح بنانا، دھندلا بنانا، مشکوک بنانا، مشتبہ بنانا، ناقابل فہم بنانا۔ تَبَهَّمَ اِستَبهَمَ علی: پر غیر واضح ہونا، مشکوک و مشتبہ ہونا، ناقابل فہم ہونا، ذو معنی یا مبہم ہونا۔ بَهمَة: بھیڑ کا بچہ، برہ، بھیڑ یا مینڈھا۔ بَهِیم: کالا سیاہ، کالا بھجنگ۔ بَهِیمَة جمع بَهائِم: جانور، چوپایا، جمع: ڈھور ڈنگر، مال مویشی، چوپائے گائے بیل، (بڑے) پالتو جانور۔ بَهِیمی: حیوانی، بہیمانہ، حیوانوں کا سا، گاؤدی، گھامڑ۔ بَهِیمِیَّة: حیوانیت، سنگدلی، نفسانیت، وحشیانہ پن، بے دردی، ہوس پرستی۔ اِبهام: اغلاق، گم نامی، اندھیرا، تاریکی، اخفا، ابہام، مبہم بات۔ اِبهام جمع اَباهِیم: انگوٹھا، بڑی انگشت پا۔ باهِم: بڑی انگشت پا۔ مُبهَم: غیر واضح، دھندلا، مشکوک، مشتبہ، تاریک، مخفی، پوشیدہ، پراسرار، مبہم۔ عددٌ مُبهَم: قائم بالغیر نمبر۔ الاسم المُبهَم: اسم اشارہ۔

بهن: تَبَهنَسَ: اترا کر پھرنا، کلول کرنا، اکڑ کر چلنا، اترانا، اکڑنا۔

بها: بَهَا ۔ بَهاءً: حسین، خوش شکل ہونا، ظریف ہونا۔ صفت: بَهِیّ مؤنث بَهِیَّة۔ ـــ ه: پر خوبصورتی میں غالب آنا۔

○ بَهَا ۔ و بَهُوَ ۔ و بَهِیَ ۔ بَهاءً: خوبصورت ہونا۔ باهَی ب: سے میں مقابلہ کرنا۔ ـــ ب: پر فخر کرنا، مغرور ہونا، کی ڈینگ مارنا، بڑ ہانکنا، شیخی بگھارنا۔ ـــ ه ب: سے کی ڈینگ مارنا۔ تَباهَا: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ ـــ ب: پر فخر کرنا۔ بَهو جمع اَبهاء: ہال (کمرہ)، بیٹھک، دیوان خانہ، استقبال کرنے کا ہال۔

بهی: ۱۔ بَهِیَ ۔ بَهاءً: حسین ہونا، ظریف ہونا۔ صفت: بَهِیّ مؤنث بَهِیَّة۔ بَهاهُ فی الحسن: پر خوبصورتی میں غالب آنا۔ باهاهُ فی الحسن: سے حسن وخوبی میں مقابلہ پر فخر کرنا۔ اَبهَی: خوبصورت چہرے والا ہونا۔ اِبتَهَی به: پر فخر کرنا۔

تَبَاهُوا: باہم فخر کرنا۔

۲۔ بَهِي - بَهِيَ البيتُ: ویران ہونا، خالی ہونا۔ بَهَّى البيتَ: گھر کو کشادہ کرنا۔ أَبْهَى البيتَ: کو غیر آباد چھوڑنا۔ ـــ الخيلَ: گھوڑے کو جنگ کے کام میں نہ لینا۔ ـــ الاناءَ: برتن کو خالی کرنا۔ البَهْو: گھروں اور خیموں کے سامنے کی وہ جگہ جو مسافروں اور مہمانوں کی فرودگاہ ہو، ملاقات کا کمرہ جمع أَبْهاء و بُهُوّ و بُهِيّ۔

○ بَهِــي: خوبصورت، شاندار، عظیم الشان، گراں قدر، بیش بہا، آراستہ پیراستہ، پرتکلف، عالیشان، چمکدار، شعاع افشاں، نور افشاں، تابندہ، فروزاں۔ بَهَائِي: بہائی (بہائی مذہب سے متعلق جمع بَهَائِيون: بہائی، بہائی مذہب کا پیروکار۔ أَبْهَى: زیادہ شاندار، زیادہ روشن، زیادہ تاباں، زیادہ چمکدار۔ مُبَاهاة و تَبَاهٍ: غرور، تکبر، شیخی، ناز، گھمنڈ، نخوت، لاف زنی، ڈینگ، خودستائی۔

باء: ا۔ بَاءَ يَبُوءُ بَوْءًا اليه: کی طرف لوٹنا۔ ـ ه و به: کو لوٹانا۔ ـ بالحق او بالذنب: حق یا گناہ کا اقرار کرنا۔ أَبَاءَ الشيءَ و بالشيء اليه و عليه: کو کی طرف لوٹانا، کسی چیز کو کسی شخص کو لوٹانا۔

۲۔ بَاءَ فلانٌ بفلان بَوَاءً: کے بدلہ میں قتل کیا جانا۔ کہا جاتا ہے: دمٌ بَوَاءُ دمٍ: خون خون کے برابر ہے۔ بُؤْ به: ان میں سے ہو جا جو اس کے عوض میں مارے جائیں گے۔ بجیر سے مہلہل کا کہنا اسی معنی میں جس میں اس نے کہا تھا: بُؤْ بشسعِ نعلِ كُلَيب: کلیب کے جوتے کے تسمے کے برابر ہو جا۔ الشِّسع: درمیانی انگلی اور ساتھ والی انگلی کے درمیان جوتے کا تسمہ ہے۔ أَبَاءَ القاتلَ بالقتيل: قاتل کو مقتول کے بدلہ میں قتل کرنا۔ تَبَاوَأَ الشيئان: دو چیزوں کا برابر ہونا۔ اِسْتَبَاءَ القاتلَ بالقتيل: قاتل کو مقتول کے بدلہ میں قتل کرنا۔

۳۔ بَوَّأَ الرمحَ نحوه: نیزہ کسی کی طرف سیدھا کرنا، تاننا۔ ـ ه و له منزلاً: مکان کو کسی کے لئے تیار کرنا اور اس کو وہاں ٹھہرانا۔ ـ المكانَ: کسی جگہ اترنا، ٹھہرنا۔ أَبَاءَ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـ ه منزلاً و في المنزل: کو گھر میں اتارنا۔ تَبَوَّأَ المكانَ و به: کسی جگہ اقامت اختیار کرنا۔ اِسْتَبَاءَ المنزلَ: کسی مکان میں اقامت اختیار کرنا، اقامت پذیر ہونا۔ البَاءَة و البِيئة و المَبْوَأ و المَبَاءَة: گھر، مکان، سرائے۔

۴۔ أَبَاءَ منه: سے بھاگنا۔

۵۔ البِيئَة: حالت۔ کہا جاتا ہے: انه حسن البِيئَة: وہ اچھی حالت والا ہے۔ المبيئة من الحاجات: شدید ضرورت۔ البُوَاء (ح): بڑا سانپ۔

○ بَاءَ ـ بَوْءًا: لوٹنا، دوبارہ آنا۔ ـ ب: کے ساتھ واپس آنا، کو واپس لانا، کو لانا، حوالے کرنا۔ بَاءَ بالفشل يا باء بالخيبة: ناکام ہونا۔ بَوَّأَه/ل ه: میں کے لئے جگہ یا جائے سکونت فراہم کرنا، کو کسی جگہ میں رکھنا، رہائش دینا۔ بَوَّأَ مكاناً: کسی جگہ میں رہنا ٹھہرنا قیام کرنا۔ أَبَاءَه ه: کے لئے کسی جگہ جائے سکونت مہیا کرنا۔ ـــ ب: میں رہنا، رہائش پذیر ہونا، اقامت اختیار کرنا۔ تَبَوَّأَ ه: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ ـ مركزاً: جگہ پر قبضہ کرنا۔ ـ مقاماً: کسی منصب یا مقام پر رہنا، لگا رہنا۔ ـــ مكاناً: زیادہ تائید و حمایت حاصل کرنے لگنا، عام طور پر مقبول ہو جانا۔ تَبَوَّأَ العرشَ: تخت نشین ہونا۔ تَبَوَّأَ الحكمَ: برسر اقتدار آنا، اقتدار حاصل کرنا۔ بِيئَة جمع بِيئات: رہائش گاہ، سکونت، جائے بود و باش، وطن، نشست، صورت حال، ماحول، گرد و نواح، گرد و پیش، سماجی ماحول، گھر، کسی جانور یا پودے کا اصلی علاقہ۔ مَبَاءَة: آنے کی جگہ، رہائش، سکونت، مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، مکان۔ تَبَوُّء تبوء العرش: تخت نشینی۔

باب: ا۔ بَابَ ـ بَوْبًا له: کا دربان ہونا۔ تَبَوَّبَ الرجلَ: کو دربان بنانا۔ الباب جمع أَبْوَاب و بِيبان: دروازہ۔ البِوابة: دربانی، دربانی کی تنخواہ۔

۲۔ بَوَّبَ الكتابَ: کتاب کو ابواب پر تقسیم کرنا۔ الباب من الكتاب: کتاب کا باب۔

۳۔ البَابَة جمع بابات في الحساب و الحدود: غایت، انتہاء، شرط، قسم، خصلت۔ کہا جاتا ہے: هذا شيء من بابتك: یہ چیز تمہارے موزوں و مناسب ہے۔ بابات الكتاب: کتاب کی سطریں۔

○ بَوَّبَ ه: کو قسموں میں تقسیم کرنا، ٹولیوں میں ترتیب دینا، کو باقاعدہ ترتیب دینا، کی درجہ بندی کرنا، کی قسم مقرر کرنا۔ باب جمع ابواب و بيبان: دروازہ، گیٹ، راستہ، گزرگاہ، داخلہ، باب، فصل، قسم، سیکشن، کالم، سرخی، عنوان، گروہ، گروپ، ٹولی، درجہ، جنس، مرتبہ، زمرہ، میدان، خیال اور عمل کا میدان۔ باب المندب: جنوب مغربی عرب اور افریقہ کے درمیان آبنائے۔ الباب العالي: باب عالی، دربار خلافت، سلطنت عثمانیہ۔ على الأبواب: قریب، نزدیک، قریب الوقوع، سر پر کھڑا، نازل ہونے والا۔ فَتَحَ باباً جديداً: نیا راستہ کھولنا۔ نیا امکان دستیاب کرنا۔ فُتِحَ بابٌ: شروع ہونا۔ قَفَلَ باب الشيء: کو ختم کرنا، بند کرنا۔ مِن باب الفضل: بطور نوازش۔ مِن باب أَوْلَى: مزید دلیل کے ساتھ۔ في هذا الباب: اس معاملہ کے بارے میں، اس کے متعلق۔ مِن باب الضرورة أنّ: یہ ضروری ہے کہ۔ ليسَ هذا مِن باب الصُدفة: یہ اتفاقی مطابقت نہیں، یہ زمانی مطابقت نہیں۔ كان مِن بابِ يا دخل في بابِ: کے متعلق ہونا، کے زمرہ میں آنا۔ فريدٌ في بابه: اپنی قسم میں منفرد۔ طلع على باب الله: اپنی روزی کمانا۔ بَابَة جمع بَابَات: قسم، نوع، زمرہ۔ بَوَّاب جمع بَوَّابون: دربان۔ بِوَابة: دربانی۔ بَوَّابَة جمع بَوَّابات: (بڑا) پھاٹک۔ بَوَّابَة القَنْطَرة: نہر کی سطح اونچی نیچی کرنے والا دروازہ۔ تَبْوِيب: ابواب میں تقسیم، درجہ بندی، گروہ بندی، باقاعدہ ترتیب، ابواب یا دفعات میں ترتیب۔ مُبَوَّب: گروہوں میں مرتب شدہ، زمروں میں ترتیب دیا ہوا، درجہ بندی کیا ہوا۔

○ بوبلين: پاپلین Poplin۔

○ بُوبِينَة: ریل۔ Spool, real۔

بوت: ا۔ البُوت (ن): خاردار، سفید اور گلابی پھولوں کے رنگ کا چھوٹا یا متوسط اونچائی کا درخت جو معتدل علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔

۲۔ البوتاس (ك): پوٹاش۔ البوتاسيوم (ك): پوٹاشیم Potassium۔

۳۔ البوتاز (ك): گیس جو گھروں میں ایندھن کے طور پر بکثرت استعمال ہوتی ہے۔

۴۔ البُوتَقَة و البُوْدَقَة: کٹھالی (فارسی لفظ)۔

○ بوتقة: کٹھالی، سخت آزمائش، نازک موقع۔ في بوتقة الزمان: زمانہ کی کٹھالی میں۔

باث: بَاثَ ـ بَوْثًا و أباثَ و اِبْتَاثَ الشيءَ و عن الشيء: کو تلاش کرنا، کا مطالعہ کرنا، کا جائزہ لینا، کی تحقیقات کرنا۔ ـــ الترابَ: مٹی کو متفرق کرنا۔ ـــ المكانَ: جگہ کھود کر اس میں مٹی ملانا۔ ـــ الرمادَ: راکھ بکھیرنا۔ اِسْتَبَاثَ التراب: مٹی نکالنا۔ کہا جاتا ہے: ترك دارَهم حُوثَ بُوثَ: ان کے گھروں کو چاپایوں کے کھروں اور ٹاپوں سے کھدوا کر ویران اور خراب کر دیا۔

باج: ا۔ بَاجَ ـ بَوْجًا الشرُّ فلاناً و عليه: کسی

پر مصیبت آپڑنا، گرنا، نازل ہونا۔ اِنباحت علیهم الدواهي: لوگوں پر مصیبتوں کا ٹوٹ پڑنا۔ البائحة جمع بوائح: مصیبت۔

۲۔ باحَ ـ بوحًا البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ اِنباحَ و تبوّجَ البرقُ: زور سے چمکنا۔

۳۔ باحَ ـ بوحًا البعیرُ: اونٹ کا تھکنا۔

۴۔ الباح دیکھئے باج۔

○ بُوجِیة جمع بُوجِیات: سپارک پلگ spark-plug.

باح: ۱۔ باحَ ـ بوحًا و بُؤوحًا و بُؤوحةً الشيءُ: ظاہر ہونا، مشہور ہونا۔ ـــ الیه بالسِرّ: سے بھید ظاہر کرنا۔ أباحَ السِرَّ: بھید ظاہر کرنا۔ البواح کھلم کھلا۔ کہا جاتا ہے: فعَلَه بَواحًا: اس نے اس کو کھلم کھلایا، دن دیہاڑے کیا۔ البَؤوح دل کی باتیں کھول کر کہہ دینے والا۔

۲۔ اباحَ الشيءَ: کو جائز ٹھہرانا۔ اِستباحَ الشيءَ: کو جائز بنانا یا جائز شمار کرنا، کو کرنے کی جسارت کرنا، جرأت کرنا، (خطرناک کام) کا بیڑا اٹھانا۔ ـ القومَ: قوم کی بیخ کنی کرنا۔ الإباحي: گناہوں کو خود کرنے والا اور دوسروں کو اس بات کی اجازت دینے والا اور واجب فرائض کو ترک کرنے اور دوسروں کو اس کی اجازت دینے والا، آوارہ، عیاش، اوباش، جسے روکا نہ گیا ہو، فوضوی، نراجی، دہریہ، لامذہب، آزاد خیال۔

۳۔ الباحة جمع بُوح: پانی یا اس کی بڑی مقدار، نخلستان، گھر کا صحن، آنگن۔ باحةُ الطریق: راستہ کا بیچ۔ البَوحَی: پچھاڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے: ترکهم بَوحَی: اس نے ان کو پچھاڑے ہوئے چھوڑا۔

○ باحَ ـ بَوحًا: (راز) کا معلوم ہوجانا، کھل جانا، فاش ہونا، ظاہر ہونا، افشا ہونا، قبل از وقت معلوم ہونا۔ ـــ الی و لِ: کو بھید معلوم ہوجانا، پر بھید کھل جانا، ظاہر ہوجانا، افشا ہوجانا۔ اَباحَ ہ/ب: کو ظاہر کرنا، کا انکشاف کرنا۔ ـــ ہ/ب ل: سے کسی بات کو ظاہر کرنا، کا انکشاف کرنا۔ ـــ ہ: کو چھوڑنا، ترک کرنا، کو عوامی ملکیت بنانا، کو بے وارث قرار دینا۔ ـ ہ ل: کو کسی چیز کی اجازت دینا، کو کے لئے چھوڑنا، کو کچھ کرنے دینا۔ ـــ ہ: کا جواز پیش کرنا، کی توجیہ کرنا۔ اِستباحَ ہ: کو ظاہر کرنا، دکھانا، کو عوامی ملکیت سمجھنا، بے وارث سمجھنا، کو معقول شکار شمار کرنا، کو جائز و روا سمجھنا، قانون کے مطابق سمجھنا۔ ـــ حُرمَتَهُ: کی عزت کو نقصان پہنچانا۔ ـــ ہ: پر قبضہ کرنا، پر قابض ہونا، کا مالک بن بیٹھنا، کو مال غنیمت کے طور پر لینا، کو ضبط کرلینا، زبردستی لے لینا۔ استباح دمَهُ: کو جلاوطن کرنا، کے سر سے قانون کا سایہ اٹھالینا۔ بَوح: (راز) کا افشا، وہ چیز جس کا اعتراف، اقبال یا اظہار کیا جائے، اعتراف گناہ۔ بُوح: چوڑی اور کھلی جگہ، صحن، ہال۔ باحة جمع باحات: وسیع اور کھلی جگہ، کھلی جگہ، صحن، ہال، چوک، چھوٹا شاپنگ سنٹر۔ اِباحیّة: سماجی قیود سے آزادی، آوارگی، بدکاری، اوباشی، فوضویت۔ مُباح: جس کی اجازت دی گئی ہو، قانونا، قانون کے مطابق جائز، ہر ایک کے لئے کھلا، جس کی ہر ایک کو اجازت ہو، آزاد، بے قدر، بے مالک، ایسا کام جس کے لئے نہ تو انعام ہو نہ سزا۔ جمع مُباحات۔ ایسے کام جن کے لئے نہ تو انعام ہو نہ سزا۔

باخ: باخَ ـ بُؤوخًا اللحمُ: گوشت کا خراب ہونا۔ ـ بَوخًا: تھک جانا۔ کہا جاتا ہے: عدا حتی باخ: وہ دوڑا یہاں تک کہ تھک گیا، دوسرے لفظوں میں وہ دوڑ دوڑ کر تھک گیا۔ ـــ الحرُّ و الغضبُ و النارُ: حرارت کا سرد ہونا، غصہ کا فرو ہونا، آگ کا بجھنا۔ أباخَ النارَ: آگ کو بجھانا۔ اسی سے ہے: أبخ عنك الظهیرة: ٹھہرو یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی ختم ہوجائے۔

○ بوخ: باخَ ـ بَوخًا: گھٹنا، کم ہونا، کم ہوجانا، عام سطح پر آجانا، فرو ہوجانا، (آگ کا) بجھ جانا؛ مرجھانا، سوکھنا، خشک ہونا، زرد ہوجانا، رنگ اڑنا۔ (گوشت) کا خراب ہوجانا۔ بَوَّخَ ہ: کو خراب کرنا۔ بُواخ: تبخیر، سانس باہر نکالنا، گیس چھوڑنا، بھاپ، بخار (جمع بخارات)۔ تَبویخ النکتة: کسی کہانی کی اصل بات کو بگاڑنا۔ بایخ: بگڑا ہوا، برا، پھیکا، بے لطف، بے مزہ، باسی (نیز باسی یا بے لطف مذاق)۔

○ بُوخارست: ایک شہر کا نام Bucharest۔

○ بُودرة: پاؤڈر (فرانسیسی لفظ)۔

○ بُودقة جمع بَوادِق: کٹھالی، سخت امتحان۔

○ بُوذا: بدھ، مہاتما بدھ (ایک مذہب کا بانی)۔ بُوذی: بدھ مذہب کا پیرو، ایک بدھ۔ بُوذیّة: بدھ مت۔

باذ: بَاذَ یَبُوذُ بَوْذًا: محتاج ہونا، متواضع ہونا۔

بار: ۱۔ بارَ ـ بَورًا و بَوارًا تِ السوقُ او السلعة: کساد بازاری ہونا۔ ـــ العملُ: کام کا لاحاصل ہونا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کا بے کاشت کے رہنا۔ بَوَّرَ الارضَ: زمین کو غیر مزروعہ چھوڑنا۔ البائر جمع بُور: بے کاشت کی زمین۔ کہا جاتا ہے: حائرٌ بائرٌ: کسی مرشد کی اطاعت نہ کرنے والا اور نہ کسی چیز کی طرف توجہ دینے والا۔ البُور من الارض: بے کاشت کی زمین، غیر مزروعہ زمین۔ البَوار: کساد بازاری۔

۲۔ بارَ ـ و اِبتارَ الرجلَ: کا تجربہ کرنا، کو آزمانا۔

۳۔ بارَ ـ بَورًا و بَوارًا: ہلاک ہونا۔ اَبارَهُ: کو ہلاک کرنا۔ تبوَّرَ نفسَه: اپنے آپ پر کی ہلاکت کے باعث نوحہ کرنا۔ البُور: خراب، ہلاک ہونے والا، بے خیر۔ کہا جاتا ہے: امرأة بُورٌ و قوم بُورٌ: ہلاک ہونے والی عورت یا قوم۔ البَوار: ہلاکت۔ دار البوار: جہنم۔

۴۔ البُور جوازیّة: بورژوا، مزدوروں اور چھوٹے عہدے داروں نیز نوابوں اور بڑے سرمایہ داروں کے درمیان کا شہری متوسط طبقہ۔

۵۔ البُورصة جمع بورصات: شاک ایکسچینج، بازار حصص (وہ جگہ جہاں سامان یا مال تجارت اور حصے اعلانیہ طور پر خرید اور بیچے جاتے ہیں)، ایسی تجارت یا اس کام میں مشغول لوگ)۔ عربی میں اُسے المُسَابَة کہتے ہیں۔

۶۔ البُورَق (ك): بورکس borax۔

۷۔ البُوری جمع بَواری (ح): دریائی مچھلی کی ایک قسم۔ البُوریّة و البُورِیاء: چٹائی۔ البَوّاری: چٹائیاں بیچنے والا (فارسی لفظ)۔

○ بور: بارَ ـ بَورًا و بَوارًا: ہلاک ہونا (زمین کا)، بے کاشت کے ہونا، (کام کا) لاحاصل ہونا، ناکام ہونا، سودمند نہ ہونا، بے نتیجہ ہونا، (سامان یا مال تجارت کا) فروخت کے قابل نہ ہونا، کساد بازاری ہونا۔ بارت البنتُ: لڑکی کا شوہر نہ حاصل کرسکنا۔ بَوَّرَ ہ: زمین کو بے مزروعہ رہنے دینا، افتادہ رہنے دینا، کسی چیز کو بے کار کرنا، غیر منافع بخش بنانا۔ بُور: افتادہ، غیر مزروعہ، بے کاشت۔ ارضٌ بُورٌ جمع اراضٍ بُورٌ: افتادہ زمین، غیر مزروعہ زمین، بے کاشت زمین، بنجر زمین۔ بَوار: ہلاکت، تباہی، بربادی۔ دارُ البَوار: جہنم۔ بائر: غیر مزروعہ، بے کاشت اور افتادہ (زمین)۔ بُورانی: ایک سبزی کا سالن، دم پخت۔

○ بُور سعید: پورٹ سعید (شمالی مشرقی مصر کی بندرگاہ)۔ بُور سُودان: پورٹ سوڈان (شمال مشرق سوڈان کی بندرگاہ)۔

○ بورتوریکو: پورٹوریکو Puertorico (ایک شہر کا

نام)۔

○ بُورتوغال: پرتگال Portugal (ایک ملک کا نام)۔

○ بُور فُؤاد: پورٹ فؤاد (پورٹ سعید کے مقابل مصر کی ایک بندرگاہ)۔

○ بُورما: برما Burma (ایک ملک کا نام)۔

○ بُوری: بگل، ترم۔

○ بوریہ: پلوری (ایک کھانے کا نام)

باز: الباز جمع بِیزان و اَبْواز (ح): باز (ایک شکاری پرندہ)۔ البُوز و البُوزة (ط): آئس کریم۔ دودھ وشکر کی جمائی موٹی برف۔

○ بَوَّزَ: ہونٹ لٹکانا، منہ بنانا، اظہار ناراضگی کرنا، روٹھ جانا، خفا خفا یا روٹھا ہوا دکھائی دینا، آزردہ نظر آنا۔ بُوز جمع اَبْواز: تھوتھنی، منہ، دہانہ، سونڈ، کسی چیز کا آگے نکلا ہوا حصہ۔ تَبْوِیزَة: آزردہ صورت۔ مُبَوِّز: آزردہ، خفا، بیزار، روٹھا ہوا، خفا خفا۔ بُوزَة: آئس کریم۔ بُوزہ: جو کی شراب جیسا مشروب۔

○ بُوس: بس bus۔

باس: ۱۔ بَاسَ ـُ بَوْسًا ہ: کا بوسہ لینا۔

۲۔ البُوسِیر جمع بَواسِیر: بواسیر۔

۳۔ البُوسْطة: ڈاک، میل۔

○ بُوسَة: بوسہ۔

○ بُوسْتُو: زنانہ زیر جامہ Corset۔

○ بُوسْطة و بوستہ: ڈاک، میل۔

○ البوسفور: باسفورس The Bosporus۔

باش: بَاشَ ـُ بَوْشًا و بَوَّشَ و تَبَوَّشَ القومُ: مل جل کر شور مچانا۔ البُوش و البَوْش: مخلوط گروہ، شور کرنے والی جماعت۔ کہا جاتا ہے: ترکھم ہَوشًا بَوشا: اس نے انہیں ایک دوسرے میں گھلے ملے چھوڑا۔ الأوباش: اسکی مقلوب جمع ہے۔ البُوشِی و البَوْشِی: بہت عیالدار غریب شخص۔

○ بَاشَ ـُ بَوْشًا: (ہجوم کا) اودھم مچانا، چلانا، زور سے بولنا، زور سے ہنسنا۔ بَوْش: بمعنی بَاش۔ بَوش جمع اَوْبَاش: انبوہ، عوام الناس، اراذل، رذیلوں کی ٹولی۔

باص: ۱۔ بَاصَ ـُ بَوْصًا ہ: سے آگے بڑھنا، پیش قدمی کرنا۔ ـ فی الامر: پر اصرار کرنا۔ ـ منہ: سے بھاگ کر چھپنا۔ بَوَّصَ: میداں میں سبقت لیجانا۔ البَوْص جمع اَبْواص: دوری، بعد۔ البَائِص من الطریق: لمبا راستہ، دور کا راستہ، پر مشقت راستہ۔

۲۔ بَوَّصَ الشیءُ: چیز کا صاف رنگ والا ہونا۔ البُوص: رنگ وصورت۔ البَوْص: رنگ وصورت ریشم یا کتان۔

۳۔ اِنْبَاصَ: سکڑنا۔ البُوص جمع اَبْوَاص: چوتڑ۔

○ بُوص (واحد بُوصَة): نرسل۔ بُوصة جمع بُوصات: انچ Inch (لمبائی کا پیمانہ)۔

○ بُوص جمع اَبْواص: لینن یا سلک کا کپڑا۔

○ بُوصلة: پرکار، کمپاس Compass۔

باض: بَاضَ ـُ بَوْضًا: جمائیاں پڑنے کے بعد خوشرو ہونا۔ ـ بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔

باط: بَاطَ ـُ بَوْطًا: امیری کے بعد غریبی اور عزت کے بعد ذلت سے دوچار ہونا۔ البُوطة جمع بُوَط: کٹھالی، کپڑے وغیرہ میں گول نقشہ، گلکاری۔ البُوط: ٹخنے سے اونچا یا فل بوٹ۔

باع: ۱۔ بَاعَ ـُ بَوْعًا و تَبَوَّعَ الحبلَ: دونوں بازو لمبا کرکے رسی کو ناپنا۔ ـ لِلمساعی: ہاتھ لمبا کرنا۔ البَاع جمع اَبْوَاع و باعات و بِیْعَان: دونوں بازوؤں کے پھیلانے کی مقدار۔ کہا جاتا ہے: طویلُ الباعِ و رَحْبُ الباعِ: سخی اور طاقتور۔ قصیرُ الباعِ و ضَیِّقُ الباعِ: بخیل اور عاجز۔ البَوْع (مص): دونوں بازوؤں کے پھیلانے کی مقدار۔ البُوع: دونوں بازوؤں کے پھیلانے کی مقدار۔ اسی سے ضرب المثل ہے: لا یعرف کوعَهُ من بُوعِهِ: وہ بالکل جاہل ہے۔

۲۔ باعَت ـُ بَوْعًا الفرسُ: گھوڑے کا لمبے لمبے قدم رکھنا۔ البَیِّع: لمبے لمبے قدم رکھنے والا۔ فرسٌ بَیِّعٌ: لمبے لمبے قدم رکھنے والا گھوڑا۔

۳۔ بَاعَ ـُ بَوْعًا: بخشش دینے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ اِنباعَ الرجلُ الیہ: کی طرف کشادہ روئی سے بڑھنا۔ ـ لہ فی البضاعة: مال تجارت بیچتے وقت قیمت میں رعایت برتنا۔ ـ العرقُ: پسینہ بہنا۔ ـ تِ الحیَّةُ: سانپ کا جست کرنے کے لئے اپنے بدن کو پھیلانا۔ ـ الشجاعُ من الصف: بہادر کا صف سے نکلنا۔ باعةُ الدار: گھر کا صحن۔

۴۔ البُوع: پاؤں کے انگوٹھے کے پاس کی ہڈی۔

○ بُوع: ٹخنے کے ساتھ کی ہڈی۔ لا یعرف الکوعَ من البُوعِ: اسے گھٹنے اور کہنی کا بھی پتہ نہیں۔ محاورۃً بے وقوف شخص۔ باعٌ جمع اَبواع: پھیلے ہوئے بازوؤں کی مقدار، گہرائی۔ طویل الباع: طاقتور، قابل، لائق، ذہین، ہوشمند، فہیم، سخی، فیاض، فراخ دل۔ قصیر الباع: کمزور، بے سخی، نالائق، قاصر، کنجوس۔ قصور الباع: بے کسی، کمزوری، نامردی، نالائقی، نااہلی۔ بالباع و الذراع: پوری قوت سے۔

باغ: ۱۔ بَاغَ ـُ بَوْغًا ہ: پر غالب آنا، کے برابر ہونا۔ کہا جاتا ہے: انک لعالم لا تُباغ: تم ایسے عالم ہو جس کا کوئی مقابل وہمسر نہیں۔ تَبَوَّغَ فلانٌ علیہ: کسی پر غالب آجانا۔

۲۔ تَبَوَّغَ الدمُ بہ: کے خون کا جوش کھانا۔ البَوْغاء: گردوغبار۔ بوغاءُ الطِیب: خوشبو کی مہک۔

۳۔ بَوْغ (ن): ایک قسم کا پودا۔

۴۔ البوغنفیلیة (ن): مختلف رنگوں کے پھولوں کا ایک پودا۔

○ بَوَّغَ: یکا یک آلینا۔

○ باغَة: سلولائڈ Celluloit۔ کچھوے کا خول۔

○ بُوغَادَة و بُوغاصَة: پوٹاش Potash، بجی دار پانی۔

○ بُوغاز جمع بَواغِیز: آبنائے، بندرگاہ، جہازوں کی قیام گاہ۔ بوغاز الدردنیل: درہ دانیال۔

○ بُوفِیہ: بوفے buffel ہوٹل کی شراب گاہ، نعمت خانہ sideboard۔

باق: ۱۔ باقَ ـُ بَوْقًا و بُؤُوقًا: شر اور جھگڑا اٹھانا۔ ـ تِ البائقةُ القومَ: قوم کو مصیبت پہنچنا۔ ـ القومَ: قوم سے بے وفائی کرنا، دغا کرنا، قوم کی چوری کرنا۔ ـ القومُ علیہ: جمع ہو کر کسی کو ظلماً قتل کرنا۔ اِنْباقَ بہ: پر ظلم کرنا۔ ـ علیھم الشرُّ: کو شر اور برائی پہنچنا۔ تَبَوَّقَ الوباءُ فی الماشیة: مویشیوں میں وباء پھیلنا۔ البائقة جمع بَوائِق: شر، برائی، مصیبت۔ کہا جاتا ہے: رفعتُ عنك بائقةَ فلان: میں نے تجھ سے فلاں کی لائی ہوئی مصیبت کو دور کر دیا۔

۲۔ بَاقَ ـُ: جھوٹ بولنا۔ بَوَّقَ: جھوٹ بولنا۔ المُبَوِّق: جھوٹی بات۔

۳۔ بَاقَ ـُ الشیءُ: ظاہر ہونا، غائب ہونا (ضد)۔ ـ تِ السفینةُ: کشتی کا ڈوبنا۔

۴۔ باقَ ـُ الشیءُ: چیز کا بگڑنا، خراب ہونا۔

۵۔ بَوَّقَ فی البُوق: بگل بجانا۔ البُوق جمع اَبْوَاق و بِیقان و بُوقات (مو): بگل، ترمی، نرسنگا۔ کہا جاتا ہے: جاء بالبوق و نفخ فی البوق: ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا، بے ہودہ اور فضول بکنا۔ البَوَّاق: بگل بجانے والا۔

۶۔ البَائِق من المتاع: بے قیمت سامان۔ متاعٌ بائِقٌ: بے قیمت سامان۔ البائقة جمع باقات:

گلدستہ، سبزی کا مٹھا۔ البُوقة جمع بُوَق: بارش کی سخت بوچھاڑ۔

۷۔ بُوُقِيصَا (ن): ایک بڑے حجم کا درخت جس کی لکڑی نرم ہوتی ہے۔ قطب شمالی میں اگتا ہے اور آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔

○ بَوَّقَ: بگل بجانا۔ بُوق جمع بُوقات و ابْواق: بگل، تُرم، باجا گاجا، شہنائیوں کی آوازیں، ہارن، بھونپو (گاڑی یا گراموفون کا)۔ آواز کے ذریعے اشارہ کرنے کا آلہ، بھونپو (megaphone)، ترجمان، دو رخی، فریب کاری، دغا، بے وفائی، غداری، افشائے راز۔ بوقُ الصوت بـابوق الراديو: (ریڈیو کا) لاوڈ سپیکر۔ بوقٌ رَحِمِي: رحم میں انڈے کے نکلنے کی نالی، رحم کی نالی جس کے ساتھ ساتھ چل کر عورت کے بیضوی خلیے بچہ دانی میں پہنچتے ہیں Fallopian tube۔ بـوّاق: بگل بجانے والا، ترم بجانے والا۔ باقة: گٹھا، گلدستہ۔ بائِقة جمع بَوَائِق: مصیبت، بدبختی۔

○ بُوقَال و بُوقالة جمع بَوَاقِيل: بغیر دستے کا برتن، آبخورہ، مگ Mug۔

باك: بَاكَ ـ بَوْكًا المتاعَ: سامان بیچنا، خریدنا (ضد)۔ ـ الرجلَ: سے مزاحم ہونا، سے میل جول رکھنا۔ ـ الامرُ: مخلوط ہونا۔ ـ القومَ رأيُهم: اختلاف رائے کی وجہ سے کسی نتیجہ پر نہ پہنچنا۔ انباك عليه الامرُ: پر کسی معاملہ کا مشتبہ ہونا۔

○ بوكسفورد: پٹرول کی گاڑی، دھان لیجانے والی گاڑی، قیدیوں کو لیجانے والی پولیس کی گاڑی (Black Maria)۔

بال: ۱۔ بَالَ ـ بَوْلاً و مَبالاً: پیشاب کرنا۔ بَوَّلَ و ابَالَ هُ: کو پیشاب کرانا۔ البُوَال: ایک بیماری جس میں پیشاب کثرت سے آتا ہے۔ البَوْل جمع ابْوَال: پیشاب۔ البُوُلَة: بہت پیشاب کرنے والا۔ المَبْوَلة: وہ چیز جو پیشاب لانے کا سبب ہو۔ المِبْوَلة: پیشاب کرنے کا برتن۔

۲۔ البال: دل (کہا جاتا ہے: ماخطر الأمرُ ببالی: یہ بات میرے دل میں نہیں کھٹکی) حال۔ (کہا جاتا ہے: فلانٌ رَخِيُّ البال: فلاں آسودہ حال ہے۔ ـ كاسف البال: برے حال والا)۔ جس چیز کا اہتمام کیا جائے (کہا جاتا ہے: ليس هذا مِن بالي: یہ وہ چیز نہیں جس کی میں پروا کروں۔ امرٌ ذوبال: مہتم بالشان کام۔ مابالك؟: تمہاری کیا حالت ہے)۔ (ح): ویل مچھلی۔ البالة: شیشی، خوشبو کی ڈبیا، گانٹھ (رسی یا لوہے کی پٹیوں سے بندھی ہوئی) (جیسے روئی کی گانٹھ، کپڑوں کی گانٹھ)۔

۳۔ بولفار: ٹھنڈی سڑک، سایہ دار سڑک (Boulevard)۔

۴۔ البوليس: پولیس (عربی شُرْطِي یا جِلواز)۔

۵۔ البُولِيصه و البُولِصة جمع بَوَالِص: رسید ہنڈی، جہاز میں لدنے والے مال کی فہرست جسے بوليصة الشحن کہا جاتا ہے۔

○ أبال: پیشاب آور ہونا۔ استَبْوَل: پیشاب کرانا۔ بَوْل جمع ابْوال: پیشاب۔ مرض البَوْل السُّكَّرِي: ذیابیطس۔ بَوْلِي: پیشاب کا۔ المَسَالِكُ البوليه: پیشاب کی نالیاں۔ الامراض البولية: گردہ اور مثانہ کی بیماریاں۔ بَوَّالَة: عوامی طہارت خانہ۔ مَبْوَلَة جمع مَبَاوِل: پیشاب دان، پیشاب آور چیز۔ مِبْوَلَه: خواب گاہ میں رکھا ہوا برتن، رات کو پیشاب کرنے کیلئے، بیت الخلاء، جائے ضرور، فلش کا طہارت خانہ۔ استبوال الدم: گردوں اور مثانے کا فعل خراب ہونے کی وجہ سے خون کی سُمیت (Uremia)۔ بَالُ: حالت، دل، ذہن، آگاہی، اطلاع، دھیان، توجہ، غور، التفات، نگاہ، نظر، لحاظ، خیال۔ ذُوبَال: اہم، نمایاں، ممتاز، قابل توجہ، قابل لحاظ، معنی خیز، سنجیدہ، قابل فکر، مخدوش، سنگین، ضروری۔ فَرَاغُ البال: فرصت، فرصت کا وقت، مہلت، آرام۔ مَشْغُولُ البال: بے چین، متردد خیز، تشویشناک، پریشان کن، بے تاب، پریشان، فکرمند۔ طويلُ البال: صبر سے برداشت کرنیوالا، صابر۔ مابالُه...... (فعل کے ساتھ) کیا وجہ ہے کہ وہ ......؟ کیوں ......؟ مَابالُك؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ خَلاَبالُه: اس کا دماغ آرام میں ہے، اسکو کوئی پریشانی نہیں۔ خَطَرَ ببالِه: اس کے دل میں آیا، اسے خیال آیا۔ أَعْطَى (ألْقَى، جَعَلَ) بالَهُ إلى (لِ): پر توجہ دینا، کی طرف متوجہ ہونا، پر توجہ مرکوز کرنا، پر سعی مرکوز کرنا، کا خیال کرنا، کو حساب میں رکھنا، کا خیال رکھنا، کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا۔ لَمْ يُلقِ لِقَولِي بالاً: اس نے میری بات پر کوئی توجہ نہ کی۔ لايَقِلُّ عَنْهُ بالاً: اس سے کم معنی خیز نہیں۔ بُوْل: ڈاک ٹکٹ۔ بال: وہیل مچھلی۔ بالَة: گانٹھ (روئی کپڑوں وغیرہ کی)۔ بُولاق: قاہرہ کا ایک علاقہ۔ بَولنده پولینڈ: (ملک کا نام)۔ بَولُندِي: پولینڈ کا، پولینڈ کے متعلق جمع بَولُنديُون پولینڈ کے باشندے۔

○ بَولَو: پولو (Polo)۔

○ بُولُونيا: پولینڈ۔ بُولُوني: پولینڈ کا، پولینڈ کے متعلق، پولینڈ کا باشندہ۔

○ بُولِيس: پولیس (police)۔ بوليس الآداب: بری عادات شکن پولیس کا دستہ۔ البوليس الجنائي: مجرم شکن پولیس فوجداری توڑ پولیس، مجرم پکڑنے والی پولیس۔ البوليس الحربي: ملٹری پولیس۔ البوليس السِرّي: خفیہ پولیس۔ بوليس المرور: ٹریفک پولیس۔ رِوَايَةٌ بوليسية: جاسوسی ناول۔

○ بُولِيسَة و بُولِيصَة جمع بَوالِس و بَوَالِص: انشورنس کا سرٹیفکیٹ، بیمہ کا معاہدہ، بیمہ کی پالیسی۔ بوليسة الشحن: جہاز میں لدنے والے مال کی فہرست۔ (bill of lading)۔

○ بوليفيا: بولیویا: ملک کا نام۔ بوليفي: بولیویا کا باشندہ۔

○ داء البولينا: گردوں اور مثانے کا فعل خراب ہونے کی وجہ سے خون کی سمیت کی بیماری Uremia۔

بوم: البُوم والبُومَة جمع ابْوَام (ح): الو (مذکر و مونث دونوں کے لئے مستعمل ہے)۔ بوم صغير اوخَبَل: یورپ کے بڑے جنگلوں میں رہنے والا ایک الو کی طرح کا رات کا شکاری پرندہ۔

بان: ۱۔ بَانَ ـ بَوْنًا هُ: پر فضل و برتری میں غالب آنا۔ البُون و البَوْن: فضل و برتری۔

۲۔ البُون و البَوْن: دو چیزوں کا آپس میں فرق یا دو چیزوں کے درمیان کی مسافت، دوری۔ البَان: واحد البَانَة (ن): ایک قسم کا درخت جس کے پتے بید کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں اس کے بیج سے خوشبودار تیل نکالا جاتا ہے۔ اس کی درازی کے سبب قد کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ البِوَان و البُوان جمع أَبْوِنَة و بُون و بُوَن: خیمہ کھڑا کرنے کا ستون۔

۳۔ بُوَنِيانَة (ن): ایک خوبصورت درخت جس کی اونچائی ۸ اور ۱۰ میٹر کے مابین ہوتی ہے، پتے بڑے اور گچھوں کی شکل کے اس کے پھول چمکدار قرمزی رنگ کے ہوتے ہیں۔ گرم ممالک میں آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے۔

○ بونس ایرس: ایک شہر کا نام۔

○ بَوْنِي جمع بَوَانِي: یابو، ٹٹو۔

باه: بَاهَ ـ بَوْهًا للشيء: کو سمجھنا۔ کہا جاتا ہے: مابِهْتُ و ما بهتُ للأمر: میں نے معاملہ کو نہیں

سمجھا۔ باھۃ الدار: گھر کا صحن، آنگن۔ البُوھَۃ: بے وقوف آدمی، دوات میں ڈالنے کی دھنکی ہوئی خشک اون، سیاہی سے تر ہو جائے تو اسے لِیقَۃ کہا جاتا ہے۔
(ح): بوہ کا مونث: الو یا الو کے مشابہ پرندہ۔

○ بَاۃٌ: وصال، مباشرت، مجامعت، صحبت، جنسی طاقت، جنسی طبیعت یا خصوصیت۔

○ بُوھِیمیا: بوھیمیا۔ ایک ملک کا نام۔ بوھیمی: ملک بوھیمیا کا، بوہیمیا کا باشندہ۔ رند مشرب (صفت و اسم) بوھیمیۃ: رندی، عیاشی، رندانہ زندگی۔

البَوّ: اونٹنی کا بچہ، بھس یا گھاس بھری ہوئی اونٹنی کے بچہ کی کھال جس کو اونٹنی کے سامنے کر کے دودھ دوہتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح دودھ اتر آتا ہے۔ اسی سے ضرب المثل ہے: فلان اخدع من البوّ۔ فلاں شخص بھس بھرے اونٹنی کے بچہ سے زیادہ دھوکے باز ہے۔

○ بؤونۃ: قدیم مصری کیلنڈر کا دسواں مہینہ۔

بوی: بَوَی یَبْوِی بَیًّا: اپنے فعل میں دوسرے کی نقل کرنا۔ البَوَی: تقلید، نقل، امید، طبیعت، دکھ، نفرت۔

○ بُویَۃ: رنگ روغن، پینٹ، بوٹ پالش۔ بَویَجی و بَویَاجی: گھروں کا رنگساز، رنگ ساز، بوٹ پاش کرنے والا۔

○ بیادۃ: پیدل فوج۔ بیادی: پیدل فوج کا سپاہی۔

○ بِیَان و بیانۃ و بیانو جمع بیانات: پیانو Piano۔

○ بِیب: پائپ، ٹیوب، کوئی چیز لیجانے والا پائپ، ٹینکی کا پائپ۔

○ بِیبَۃ: پائپ (تمباکو نوشی کا)۔

بات: ۱۔ بَاتَ - بَیْتًا و بَیَاتًا و بَیْتُوتَۃً و مَبِیتًا و مَبَاتًا فی المکان: کسی جگہ شب باشی کرنا، رات گزارنا — فلانًا و بہ و عِندَہ: کسی کے پاس رات کے وقت آنا، یا رات ہو جانا۔ کہا جاتا ہے: بَاتَ یفعل کذا: جب کوئی رات کو کام کرے جس طرح دن کے وقت کام کرنے والے کے لئے کہا جاتا ہے: ظَلَّ یفعل کذا۔ اَبَاتَہ: کو رات گزرنے دینا، شب باشی کرانا۔ کہتے ہیں: اباتہُ اللہُ احسنَ بِیتَۃٍ: اللہ تعالیٰ اسے اچھی شب باشی کرائے۔ بَیَّتَ الشیءَ: کو رات کے وقت کرنا یا اس کی منصوبہ سازی کرنا۔ — العدوَّ: دشمن پر شبخون مارنا۔ — رایَہٗ: اپنی رائے پر سوچ بچار کرنا۔ اِستَبَاتَ: رات کی خوراک مہیا کرنا۔ البَیَات: دشمن پر شب خون۔ البائت: رات گزرا ہوا پانی یا دودھ جو ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ البُیُّوت: بمعنی البائت: (کہا جاتا ہے: اسقنی من بیُّوت السقاء: مجھے رات کو دودھ کر مشک میں رکھا ہوا سرد دودھ پلاؤ) ایسا معاملہ جس کی وجہ سے صاحب معاملہ رات بھر غور خوض اور سوچ بچار کرتا رہا ہو۔ انسان کے دل میں براجمان غم۔ اذا خفتُ بیُّوتَ امرٍ عضال: جب میں سخت معاملہ کے غم سے دہشت زدہ ہوتا ہوں۔

۲۔ بَاتَ - بَیْتًا الرجلُ: شادی کرنا۔ — الرجلَ: کی شادی کرنا۔

۳۔ بَیَّتَ الشیءُ: کا انداز کیا جانا۔

۴۔ بَیَّتَ الشیءَ: کو مساکن بنانا۔ — البیتَ: گھر بنانا۔ البَیْت جمع بُیُوت و اَبیَات، و جمع الجمع بُیُوتَات و اَبَابِیت: (بعض کے نزدیک یہ آخری دونوں جمعیں اشراف کیلئے مخصوص ہیں) تصغیر: بُیَیت: گھر، مکان، شرافت۔ کہا جاتا ہے: ھو جاری بیتَ بیتَ: وہ میرا پڑوسی ہے، اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے۔ البیتُ العتیق اور البیتُ الحرام: کعبہ۔ بیتُ الرجل: آدمی کے اہل وعیال۔ بیتُ المَقدِس اور البیتُ المُقَدَّس: یروشلم، قدس شریف۔ بیتُ المال: حکومت اسلامیہ کا خزانہ۔ بیتُ العنکبوت: مکڑی کا جالا۔ بیت الشعر: دو مصرعوں سے مرکب منظوم کلام۔ بیتُ القصیدہ: قصیدہ کا چیدہ شعر یا شاعر کی غرض کو ظاہر کرنے والا شعر۔ المَبِیت: مسکن، شب باشی کی جگہ۔ البِیت والبِیتَۃ: خوراک، روزی۔ کہا جاتا ہے: لَہٗ بیتُ لیلۃٍ: اس کے پاس صرف ایک رات کی خوراک ہے۔ المُبَیِّتَۃُ مِن النساء: گھر اور شوہر والی عورت۔ المُبَیَّت: محتاج، فقیر۔

○ بَاتَ - مَبِیتًا: رات گزارنا یا صرف کرنا، رات کی رات ٹھہرنا، ہو جانا۔ — فی: (کسی صورت حال) میں ہونا، کوئی کام کرتا رہنا، پر قائم رہنا، پکا ہونا۔ بَیَّتَ ہ: کیبارے میں رات کو منصوبے باندھنا۔ — ہ ل: کے خلاف کوئی برا منصوبہ بنانا، کے خلاف کوئی تدبیر کرنا، سازش کرنا۔ — ل: کے خلاف سازش کرنا۔ — ہ: کو رات بھر کے لئے اپنے گھر میں رکھنا اور کھانا دینا۔ بَیَّتَ فی الصف: طالب علم کا امتحان میں فیل ہو جانا۔ اَبَاتَ ہ: کو رات بھر کیلئے گھر میں رکھنا اور کھانا دینا۔ بَیت جمع بُیُوت و ... مکان، عمارت، (خانہ بدوش کا) خیمہ، کمرہ، رہنے کا کمرہ، اپارٹمنٹ، فلیٹ، کیاری، خاندان، کنبہ، کیس، بکس، ڈبہ، ڈھکنا پوش، پوشش، نیام، میان، شعر جمع اَبیَات۔ بیوتات: بڑے قابل مکانات، قابل عزت کنبے یا خاندان۔ بیتُ الاِمرۃ: جہازران کی کمپاس۔ اھل البیت: خاندان، خصوصا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اھل البیُوتات: اچھے قابل عزت خاندانوں کے لوگ۔ بیُوتات تجاریۃ: تجارتی ادارے۔ البیتُ الحرام: کعبہ۔ بیتُ الخلا و بیتُ الادب: طہارت خانہ، فلش کا طہارت خانہ۔ بیتُ الداء: بیماری کی اصل یا صدر مقام۔ بیتٌ ریفی: دیہاتی مکان۔ بیتُ القصیدۃ یا بیتُ القصید: نظم کا بڑا یا بہت ضروری شعر۔ لب لباب، نچوڑ، ضروری بنیادی عنصر، کسی چیز کی کامیاب کوشش، نمایاں چیز، صحیح چیز بات وغیرہ۔ بیت لحم: ایک شہر کا نام جو فلسطین میں واقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گاہ۔ البیتُ المالِک: حکمران گھرانہ۔ بیتُ المال: خزانہ عامرہ۔ بَیتِی: گھر کا، گھریلو، گھر کا بنا ہوا، اپنے ملک کی آب وہوا کے عادی بنائے ہوئے (دوسرے ملکوں کے جانور)۔ بُوَیت جمع بُوَیتَات: چھوٹا سا مکان، چھوٹا سا خیمہ۔ بَیَّات جمع بَیَّاتُون و بَیَّاتَۃ: خرچ دے کر کھانا کھانے والا (طالب علم)، اقامتی مدرسے کا (طالب علم)۔ بیُّوت: باسی، پرانا۔ مَبِیت: رات بھر کا قیام، رات کے لئے پناہ گاہ۔ بائت: باسی، پرانا۔ بائت فی الصف: طالب علم جسے سکول میں ترقی نہ ملی ہو۔ مُبَیِّت: سازشی، سازباز کرنے والا۔

بیج: بیجاما جمع بیجامات: رات کو سونے کا پاجامہ۔

○ بیجاما و بیجامۃ: پاجامہ۔

باد: ۱۔ بَادَ - بَیْدًا و بَیَادًا و بُیُودًا و بَیْدُودَۃً: ہلاک ہونا۔ اَبَادَہ: کو ہلاک کرنا۔ البَیدَاء جمع بِید و بَیدَاوات: بیابان۔

۲۔ بادت الشمسُ بُیُودًا: سورج کا ڈوبنا۔

۳۔ بَیدَ: پر ہمیشہ اَنّ اور اس کے معمول جملہ کی طرف مضاف ہو کر آتا ہے اور سوائے، مگر کے معنی دیتا ہے جیسے کہتے ہیں: فلانٌ کثیرُ المال بَیدَ اَنَّہٗ بخیل: فلاں شخص بہت مال دار ہے مگر ہے بخیل۔ البَیَّادَۃ (ا ع): پیدل فوج واحد بَیَّادِی: پیدل (فوج کا) سپاہی۔

۴۔ بَیدَا غُوجیا: بچوں کی تربیت اور تعلیم کا فن۔

۵۔ بَیْذَرَ الحنطۃَ: گیہوں کا ڈھیر لگانا۔ البَیْذَر (ز): خرمن، کھلیان۔

۶۔ البَیْذَق (ح): ایک شکاری پرندہ۔

○ بَیْدَ اَنَّ: اگر چہ، حالانکہ، تاہم لیکن مگر۔

○ بَیْــداء: صحرا، بیابان، ریگستان، لق ودق صحراء۔ بَــائِد: عارضی، آنی جانی، دم بھر کا، چندروزہ، فانی، ناپائدار، عارضی، دنیاوی، عرصہ حیات کا، زمانی، گزرا ہوا، گیا گزرا، رفت گزشت۔ مُبِید: تباہ کن، نیست و نابود کرنے والا جمع مُبِیدات: بیخ کنی یا استیصال کے ذریعے۔ مُبِیدَات حشریۃ: کیڑے مار دوائیاں۔

○ بَیْذَق (و بَیْذق) جمع بَیَاذِق: شطرنج کا پیادہ۔

بیذ: الـبیذق جمع بَیَاذِق: سفر کا رہنما، پیدل چلنے والا اور اسی سے ہے بَیْذَقُ الشطرنج پیادہ (شطرنج میں)۔

بیر: ۱۔ البَیْرَق جمع بَیَارِق: جھنڈا۔ البَیْرَق دار: جھنڈا بردار۔

۲۔ البَیْرَمُون و البارامون: نصرانیوں کا بعض عیدوں سے پہلے کا دن جیسے عید میلاد جس میں وہ اگلے دن آنے والی عید کے لئے روزے اور عبادتوں کے ذریعے تیاری کرتے ہیں۔

۳۔ بِیرَۃ: جو کی شراب، بیئر۔

۴۔ بَیرُوقرَاطِیَّۃ: نوکرشاہی bureau cracy۔

○ بَیَّارَۃ جمع بَیَّارات: آبپاشی پہیہ۔ وسیع قطعہ زمین جس میں چائے، روئی تمباکو، گنوں کی کاشت کی جاتی ہے۔

○ مَصْنَع البیرا: بیئر کا کارخانہ brewery۔

○ جبال البِیرِنہ: پائرینز کے پہاڑ۔

○ بیرو: پیرو (ایک ملک کا نام)۔

○ بِیْرُو جمع بیروات: دفتر، بیورو Bureau۔

○ بَیْرُوت: بیروت (لبنان کا دارالحکومت)۔ بَیْرُوتی جمع بَوَارِتَہ و بَیَارِتہ: بیروت کا باشندہ۔

○ بیروقراطی: نوکرشاہی ذہنیت کا، دفتری ذہنیت کا۔ بِیــرُو قراطیۃ: نوکرشاہی، سرخ فیتہ، ضابطہ پرستی، غیر ضروری تاخیر، دفتری طریقے یا ذہنیت۔

بیز: البَیْزَار جمع بَیَازِرہ: پرندہ باز رکھنے والا، کاشتکار، ہل چلانے والا۔ البِــزْدَرَۃ: کاشتکاری، باز کی رکھوالی۔

○ بِیــزَنْطِیا: ایک ملک کا نام۔ بِیــزنطی: بازنطی باشندہ، بازنطی طرز تعمیر۔

○ بیــسون: ارنا بھینسا۔

بیش: بَیَّشَ اللّٰہُ وجھَہٗ: اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بنائے۔ اَبَاشَ الشجرۃَ: درخت لگانا، درخت کی جڑ بٹھانا۔ البِیش جمع اَبْیَاش (ز): گڑھا جس میں پودا یا پنیری لگائی جاتی ہے (عام زبان میں)۔ (ن): ایک قسم کی زہریلی گھاس۔

بیص: البَیْــص و البِیْــص: تنگی، بختی۔ کہا جاتا ہے: وقعوا فی حَیْصَ بَیْصَ و حِیْصِ بِیصِ: وہ سختی اور تنگی میں پڑے۔

باض: ۱۔ بَاضَ ـ بـالـمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔

۲۔ بَاضَ ـ السحابُ: بادل کا برسنا۔

۳۔ بَاضَ ـ الحَرُّ: گرمی کا سخت اور تیز ہونا۔ بَیْضَۃُ الحَرِّ: گرمی کی سختی اور تیزی۔

۴۔ بَاضَ ـ فلاناً: پر سفیدی میں غالب ہونا۔ بَیَّضَہٗ (فَتَبَیَّضَ): کو سفید کرنا۔ تَبَیَّضَ: سفید ہو جانا۔ اسی سے ہے: تَبْیِیْضُ الکتابۃ: مسودہ کو صاف کر کے لکھنا۔ و تَبْیِیْضُ الآنیۃَ: برتن قلعی کرنا۔ کہتے ہیں: بَیَّضَ اللّٰہُ وَجْھَہٗ: اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کرے۔ بَایَضَ: دن کی سفیدی میں سے کچھ لینا۔ ـ ہٗ: پر سفیدی میں بڑھنا۔ اَبَاضَت المراۃُ: عورت کا گورے بچے جننا۔ اِبْیَضَّ و ابیاضَّ: سفید ہونا۔ البَیَاض: سفیدی۔ (ط): دودھ (ط) حرام کھانوں میں گوشت کے علاوہ کھانے، جو چیز سفید ہو۔ کہا جاتا ہے: بیاضُ العین و بیاضُ البیضۃ: آنکھ کی سفیدی، انڈے کی سفیدی کہا جاتا ہے: بیاضُ الجلد: بے بال چمڑا۔ بیاضُ الوجو: شہرت، نیک نامی۔ بیاضُ النہار: دن کی روشنی۔ بیاض الیوم: تمام دن۔ بیاضُ الارض: عمارت سے خالی زمین۔ بیاضُ البطن: گردہ کی چربی وغیرہ۔ کہتے ہیں: فلانٌ یلبس السوادَ و البیاضَ: فلاں شخص سیاہ و سفید پہنتا ہے اور کبھی سواد کو فساد کے لئے اور بیاض کو فلاح کے لئے مثال ٹھہراتے ہیں۔ الأَبْیَض مونث: بَیْضاء جمع بِیض: سفید، تلوار۔ الموت الابیض: اچانک موت۔ الخیط الابیض: صبح کی پہلی شعاع۔ البِیض من اللیالی: چاندنی راتیں۔ الأیام البِیض: ان راتوں کے دن۔ الأَبْیَضان: دودھ اور پانی یا دودھ اور چربی یا روٹی اور پانی۔ کہا جاتا ہے: ما رأیتہ منذ اَبْیَضَین: میں نے اس کو دو ماہ یا دو دن سے نہیں دیکھا۔ ھذا ابیضُ من ذاک کہنا شاذ ہے کیونکہ قیاس کی رو سے ابیض کے بجائے اشد بیاضاً ہونا چاہیئے۔ الید البیضاء: نعمت، احسان۔ کہا جاتا ہے: اَتَیْتُہ فی بیضاء القیظ: میں اس کے پاس سخت گرمی میں آیا۔ کَلَّمْتُہٗ فما رَدَّ علَیَّ بیضاءَ ولاسوداءَ: میں نے اس سے گفتگو کی مگر اس نے جواب میں اچھا برا کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ البِیْضان من الناس: گورے لوگ۔

۵۔ باضَ ـ بَیْضًا الطائرُ: پرندے کا انڈا دینا، صفت بَائِض مونث بائِض جمع بَوَائِض۔ اسم مبالغہ بَیُوض جمع بُیُض و بِیض۔ البَیْضَۃ جمع بَیْضَات اور بَیْض کی جمع بُیُوض: انڈا، خصیہ، بیضۃ الدیک: (مرغ کا انڈا) اس سے مراد ناممکن الحصول شے ہے یا اس کے جزء کے لئے جو ایک ہی بار پائی گئی ہو۔ البُیَیْضَۃ جمع بُیَیْضات (ع ا): مادہ عنصر برائے افزائش نسل۔ بَیُوض (ح): حیوانات جو انڈے کے ذریعے افزائش حاصل کرتے ہیں، یہ زیادہ تر دودھ دینے والے جانور نہیں ہوتے۔ المَبِیض (ع ا): بیضہ دان۔ البَیَّاضَۃ: بہت انڈے دینے والی۔

۶۔ بَایَضَہٗ: سے کھل کر دل کی بات کہہ دینا۔

۷۔ اِبْتَاضَ: خود پہننا۔ البَیْضَۃ (ا ع): خود۔ (سر کی حفاظت کی ٹوپی)

۸۔ اِبتَاضَ القومَ: قوم کو فنا کر دینا، قوم کے میدان میں گھس جانا۔ بیضۃُ القوم: قوم کا میدان۔ ـــ البلدِ: شہر کا سب سے بڑا آدمی یعنی چودھری، گمنام نسب والا۔ ـ الخدر: لڑکی۔ ـ العُقْر: آخری اولاد۔

○ باضَ ـ بَیْضًا: انڈے دینا۔ ـ ہ: انڈے دینا۔ ـــ ب: کسی جگہ ٹھہرنا، بود و باش اختیار کرنا، رہائش کرنا۔ باضَ بالمکان و فَرَّخَ: کسی جگہ پیدا ہونا اور بڑا ہونا، قدم جمانا اور طاعون پھیلانا۔ بَیَّضَ ہ: کو سفید کرنا، پر سفید رنگ کرنا، پر سفیدی کرنا، کا رنگ اڑانا، پر قلعی کرنا، کی صاف نقل تیار کرنا۔ بَیَّــضَ وجھَــہٗ: کو بے قصور، بے گناہ ظاہر کرنا، کی بریت میں کچھ کہنا، کو بری الذمہ قرار دینا، کو بے گناہ ثابت کرنا، کو حق بجانب قرار دینا، کا جواز پیش کرنا، کا احترام کرنا۔ بَیَّضَ اللّٰہُ وجھَہٗ: اللہ اسے خوش و خرم رکھے۔ لا یبیض من صحیفتِہ: یہ اسے موافق روشنی میں پیش نہیں کرتا۔ تَبَیَّــض: سفید ہو جانا۔ اِسْتَبَضَّ: سفید ہونا یا ہو جانا۔ بَیْض جمع بُیُوض: انڈے۔ بَیْضَہ جمع بَیْضات: انڈا، خصیہ، خود، اہم حصہ، جوہر، چیز، شے، روح۔ بَیْضَۃُ

الدیلک: محال یا غیر معمولی چیز۔ فی بیضة النهار: دن دیہاڑے، دن کی روشنی میں۔ بَیْضَةُ الصیف: موسم گرما کا گرم ترین حصہ۔ بیضةُ الاسلام: اسلامی قلمرو یا عملداری یا ڈانڈ۔ الدفاع عن بیضة الدین یا عن بیضة الوطن: دین کا دفاع، ملک کا دفاع۔ بیضةُ الخِدر: بیرونی دنیا سے الگ تھلگ رکھی ہوئی عورت، پاکدامن عزت دار عورت۔ بَیضی، بَیْضَوِی و بَیْضَاوِی: انڈے کی شکل کا۔ بُیَیْضَة و بُوَیضة جمع بویضات و بییضات: چھوٹا انڈا، بیضہ، ابتدائی شکل میں انڈا۔ بَیَاض: سفید، سفیدی، قلمی جمع بَیَاضات: بنجر، غیر کاشت شدہ و ویران، غیر آباد زمین، قلمی تحریر میں خالی جگہ، خالی جگہ، ایک خطرناک بیماری جس سے خون میں بہت زیادہ سفید خلیے پیدا ہو جاتے ہیں، لینن کتان کا کپڑا، جمع بَیَاضات: کتان کی چیزیں، کتان کے کپڑے، دودھ، مکھن، انڈے۔ بَیَاضُ البیض: انڈے کی سفیدی۔ بیاضُ العین: آنکھ کا سفید حصہ۔ بیاض النهار: دن کی روشنی، دن کو دن کے دوران۔ بیاضَ یَومِهِ و سوادَ لَیلِهِ: دن رات۔ بیاض الوجه: عمدہ سیرت، اچھی شہرت۔ سمك بیاض: دریائے نیل کی ایک مچھلی۔ علی بیاض: کورا، جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ البیضان: گوری نسل۔ الأبْیَض: انڈے کی سفیدی۔ ارضٌ بَیْضَاء: بنجر زمین، غیر مزروعہ زمین، اجاڑ، بیابان۔ ثَورَةٌ بَیْضَاء: پرامن اور بلا خونریزی انقلاب۔ الذهب الابیض: پلاٹینم۔ بالسلاح الابیض: تیز تلوار سے۔ صحیفتهُ بَیْضَاء: وہ اچھی شہرت کا مالک ہے، وہ نیک کام ہے، وہ شریف کردار ہے۔ صُحُفٌ بَیْضَاء: شریف اور عظیم کام۔ اکْذُوبَةٌ بَیْضَاء: سفید جھوٹ۔ لیلة بیضاء: رات جس میں نیند نہ آئے، رات جو بیداری میں گذ. ری گئی ہو۔ الموتُ الابیضُ: طبعی موت۔ یدٌ بَیْضَاء: نیک رحم دل اور محسن ہاتھ، نیکی، احسان۔ مَبْیَض: رحم، بیضہ دان۔ تَبْیِیضَة: صاف نقل۔ ابیضاض: بیماری جس سے خون میں بہت زیادہ سفید خلیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بَائِض جمع بَوَائِض: انڈے دینے والا۔ مُبَیِّض جمع مُبَیِّضون: سفیدی کرنے والا، سفید کرنے والا، قلعی کرنے والا، نقل نویس، صاف نقل بنانے والا۔ مُبَیَّضَة: صاف نقل (fair copy)

باظ: بَاظَ - بَیْظًا: دبلا پتلا ہونے کے بعد موٹا ہونا۔

البیظ: چیونٹیوں کے انڈے۔

○ بَیْطَرَ: حیوانات کا علاج کرنا۔ - ہ: جانور کے نعل لگانا۔ بیطار: سلوتری، معالج حیوانات، نعلبند جمع بَیَاطِرة۔ بَیْطَرِی: بیطاری کے متعلق، علاج حیوانات کے متعلق۔ بَیْطَرَة: علاج حیوانات، نعلبندی۔

باع: ا۔ بَاعَ - بَیْعًا و مَبِیعًا فلاناً کتاباً او من فلانٍ کتاباً: کو کتاب بیچنا، سے کتاب خریدنا۔ صفت: بائع جمع بَاعَة۔ صفت مفعولی: مَبِیع۔ ابَاعَ الشیءَ: کو فروخت کے لئے پیش کرنا۔ اِبْتَاعَ الشیءَ: کو خریدنا۔ انباعَ الشیءُ: خرچ ہونا، فروخت ہونا۔ تَبَایَعَا: باہم خرید و فروخت کرنا۔ اِسْتَبَاعَ الشیءَ: سے کچھ بکوانا۔ البَیْع (ت): خرید، فروخت (ضد) جیسے: بِعْتُهُ هذا الثوبَ: میں نے یہ کپڑا اسے فروخت کیا یا میں نے اس سے یہ کپڑا خریدا۔ البِیَاعَة جمع بِیَاعات: بیچنے کا سامان، سامان فروختگی۔ البَیِّع و البَیَّاع: بیچنے والا، خریدنے والا۔

۲۔ بَایَعَ مُبَایَعَةً: سے باہم معاہدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: بَایَعُوه بالخلافة و بُویِعَ له بالخلافة: لوگوں نے اس کی خلافت پر بیعت کی، لوگوں نے اس کی خلافت کو مان لیا اور تسلیم کر لیا۔ البَیْعَة: عقد و پیماں۔ المبایعة بالخلافة: سرکردہ افراد کا اس شخص کا جسے وہ خلیفہ مقرر کریں ہاتھ پکڑ کر اس کو قبول کرنے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد۔

۳۔ البِیعة جمع بِیَع و بِیعَات و بیعات: نصاریٰ اور یہود کی عبادت گاہ، کلیسا، گرجا، یہودیوں کا عبادت خانہ۔

○ بَاعَ - بَیْعًا و مَبِیعا ہ ہ/ل ب: کو کوئی چیز فروخت کرنا کسی قیمت پر۔ بَایَعَهُ: سے معاہدہ کرنا، کو خراج عقیدت پیش کرنا، کو بطور فرمانروا یا رہنما تسلیم کرنا، کی فرمانبرداری، اطاعت و انقیاد کا عہد کرنا۔ اَبَاعَ ہ: کو برائے فروخت پیش کرنا۔ تَبَایَعَ: فروخت کی شرائط پر اتفاق کرنا، سودا کرنا، معاملہ کرنا۔ اِنْبَاعَ: فروخت ہونا، فروخت کے لئے ہونا۔ اِبْتَاعَ ہ من یا ابتاع ہ ہ: کو سے خریدنا یا سے کچھ خریدنا۔ لا ابتاعُ منه و لا ابیعه: میں اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ بَیْع جمع بُیُوع و بُیُوعات: فروخت۔ للبیع: برائے فروخت۔ بُیُوع یا بُیُوعات جَبْرِیَّة: جبری فروختگیاں، نیلام کے ذریعے لازمی فروخت۔ بیع بالجملة: تھوک فروخت۔

بَیْع بالخِیَار: اختیاری یا انتخابی فروخت۔ بیع لآخر راغِب: سب سے زیادہ بولی دینے والے کے نام فروخت۔ بَیْعَة: اتفاق، انتظام، کاروباری معاہدہ، سودا، تجارتی کاروبار، سودا، فروخت، خرید، خراج تحسین۔ بَیَّاع: سیلز مین، سوداگر، بیوپاری، کمشن ایجنٹ، تاجر، دوکاندار۔ مَبِیع: فروخت۔ مَبِیعَات: فروختگیاں (خصوصاً شاک مارکیٹ میں)۔ مبایعة جمع مُبَایَعَات: معاہدہ طے کرنا، خراج تحسین، فرمانبرداری، اطاعت اور انقیاد کا عہد۔ ابتیاع: خرید۔ بَائِع جمع باعة: بیچنے والا، دکاندار، بیوپاری، سوداگر، سیلز مین۔ بائعة: فروخت کرنے والی۔ مَبِیع و مُبَاع: فروخت شدہ۔ مُبْتَاع: خریدنے والا، خریدار۔ بِیعَة جمع بیعات و بِیَع: گرجا، یہودی معبد۔

باغ: بَاغَ یَبِیغُ بَیغًا و تَبَیَّغَ الدمُ: خون کا جوش مارنا۔

بیق: البِیقَة (ن) ایک قسم کی گھاس کا نام جو جانوروں کے چارہ کے کام آتی ہے۔

۲۔ بَیْقَرَ: تھکنا، ہلاک ہونا، سر جھکا کر جلدی جلدی چلنا، نامعلوم جگہ کی طرف جانا۔ — فی ماله: اپنے مال کو تیزی سے اڑا ڈالنا۔ — الدارَ: گھر میں اترنا۔ الابَیْقَر: بے فیض آدمی۔

بیك: ا۔ البیك جمع بكوات: بعض کے نزدیک بیکات: ترکی الاصل لفظ بک ہے۔ وزراء کی اولاد اور عوام میں ممتاز لوگوں اور ہر صاحب اثر و نفوذ کا لقب۔ فوج میں: لفٹننٹ کرنل، بحری کمانڈر، کیپٹن۔

۲۔ البیکار: پرکار۔

بیل: البَیْلَسان و البَلَسان (ن): ایک قسم کا درخت جس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔

○ بَیکُوِیَّة: بے کا مرتبہ۔

○ بیکباشی: دیکھو بکباشی۔

○ بِیکَه: بٹے ہوئے تاگے کا موٹا سوتی کپڑا۔

○ بِیل: گولی۔ کرسی بیل: بال بیئرنگ ball-bearing۔

○ بَیلَسان: سیاہ گوندنی کی قسم کے پھل اور خوشبودار سفید پھولوں کا چھوٹا درخت۔

بیم: البِیمارِسْتان و المارِسْتان (طب): شفاخانہ، ہسپتال، اس کے لئے عربی لفظ مُستشفی ہے۔

بان: ا۔ بَانَ - بَیَانًا و تِبْیَانًا و تِبِیانًا: واضح ہونا، ظاہر ہونا صفت: بَیِّن و بائن جمع اَبْیناء و بُیَناء و اَبْیَان۔ بَیَّنَ الشیءُ: واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ — الشیءَ: کو ظاہر کرنا واضح کرنا۔ — الشجرُ:

درخت کا پتے لانا۔ اَبَانَ الشیءُ: واضح ہونا صفت: مُبِین۔ کہا جاتا ہے: ضربه فابان راسَه من جسده: اس نے اُسے مار مار کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ـــــ الشیءَ: کو واضح کرنا۔ تَبَیَّنَ الشیءُ: واضح ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو واضح کرنا، پر غور و تامل کرنا۔ اِستَبَانَ الشیءُ: واضح ہونا۔ ـــ الشیءَ: کی وضاحت چاہنا۔ البَیَان (مص): فصیح گفتگو جو مافی الضمیر کو ظاہر کرے۔ دلالت فصاحت جس سے کوئی بات واضح ہو۔ اس سے ان من البیان لسحراً جادو بیان کی قسم سے ہے۔ البَیِّنَة جمع بَیِّنات (بَیِّن کا مونث): دلیل، حجت۔

۲۔ بَانَ - بَیْنًا و بُیُونًا و بَیْنُونَةً عنه: سے جدا ہونا۔ بَایَنَه: کو چھوڑ کر جدا ہونا۔ اَبَانَ الشیءَ: کو کاٹنا، جدا کرنا۔ تَبَایَنَ الرجلان: ایک دوسرے کو چھوڑنا، ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ ـــ الشیئان: باہم متفاوت ہونا۔ البَیْن: جدائی، فساد، دشمنی۔ البِین جمع بُیُون: دو زمینوں کے درمیان کا فاصلہ، حد نظر تک زمین کا ٹکڑا، کونہ، گوشہ۔

۳۔ بَیَّنَ البنتَ: لڑکی کی شادی کرنا۔ البائِنة: دلہن کا جہیز۔ ذات البَین: نسب، قرابت، دوستی (کہا جاتا ہے: سعی فی اصلاحِ ذاتِ بینهم: اس نے ان کے معاملات کی اصلاح کے سلسلہ میں کوشش کی) وصل۔ کہا جاتا ہے: تَقَطَّع بینهما: ان کے میل ملاپ میں فصل واقع ہو گیا، ان کا آپس کا تعلق ٹوٹ گیا۔

۴۔ بینَ: ظرف بمعنی وسط درمیان۔ کہا جاتا ہے: بَینا او بینما نحن نضرب جسکا مفہوم یہ ہے: بینَ اوقات ضربنا: ہمارے مارنے کے اوقات کے درمیان گویا الف یا ما کو اوقات کے عوض میں لاتے ہیں، جو محذوف سمجھا جاتا ہے۔ بَیْنَ بَیْنَ: اچھی اور ردّی کے درمیان۔

۵۔ البِین جمع بُیُون: ہزار۔ البِینباشی: ہزار فوجیوں کا افسر۔

۶۔ البیانو (مو): پیانو۔

○ بین: بَانَ - بَیَانًا: صاف، واضح ہونا یا ہو جانا، معلوم ہونا، ظاہر ہونا۔ ـــــ لِ: کے لئے صاف اور واضح ہونا۔ ـــــ بَینًا و بَینُونَةً عن: سے الگ ہونا جدا ہونا۔ بَیَّنَ ہ: کو واضح کرنا، ظاہر کرنا، عیاں کرنا، آشکارا کرنا، کا اعلان کرنا، کو بیان کرنا، کو دکھانا، کی وضاحت کرنا، پر روشنی ڈالنا۔ بَایَنَہ: سے جدا ہونا، کو چھوڑ جانا، کو ترک کرنا۔ ـــ ہ/ہ: سے اختلاف کرنا، سے مختلف ہونا۔ ـ ہ: کی تغلیط کرنا، تردید کرنا، کو رد کرنا، کے خلاف ہونا، سے متصادم ہونا، سے ٹکرانا، کے مطابق نہ ہونا، سے متضاد ہونا، کے خلاف ہونا۔ اَبَانَ ہ ل: پر کی وضاحت کرنا، تشریح کرنا، سے کو صاف صاف بیان کرنا۔ ـــــ ہ من: کو سے جدا کرنا، علیحدہ کرنا، میں امتیاز کرنا، فرق کرنا۔ ـــــ: صاف واضح ظاہر ہونا۔

تَبَیَّنَ لِ: کے لئے صاف ہونا، واضح ہونا، قابل فہم ہونا۔ ـ: آخر میں ثابت ہونا، ظاہر ہونا، واضح ہونا، آخر کار ہونا۔ ـــــ من: سے نتیجہ نکلنا، سے واضح ہونا، سے صاف طور پر نمایاں ہونا۔ ـــــ ہ: کی تحقیق یا کے حقائق کا پتہ چلانے کا خواہاں ہونا، کے متعلق جاننے کی کوشش کرنا، ـــ ہ/ ہ: کا تنقیدی جائزہ لینا۔ ـ ہ: کو بغور دیکھنا، کے متعلق سچ حاصل کرنا، کو صاف طور پر دیکھنا، معلوم کرنا، دریافت کرنا، پانا۔ ـ ہ من: میں فرق کرنا، امتیاز کرنا۔ تَبَایَنَ: مختلف ہونا، مخالف ہونا۔ ـــــ بین: دو رقموں یا حدوں میں اختلاف رکھنا، بدلتے رہنا۔ اِستَبَانَ: واضح ہونا، صاف ہونا، ظاہر ہونا۔ ـــــ ہ: کو دیکھنا جاننا، سمجھ لینا۔ استَبینَ من: سے واضح طور پر نتیجہ نکلنا، سے صاف طور پر نظر آنا۔ بَیْن: جدائی، تقسیم، وقفہ، اختلاف۔ ذاتُ البَیْن: دشمنی، نااتفاقی، ناموافقت، بے آہنگی۔ فی البین: اس دوران میں، اس اثنا میں۔ بَیْنَ یا فیما بین: درمیان۔ بین ...... و ـ: کسی حد تک، تھوڑا سا۔ کان القوم بین صامت و متکلم: ہجوم خاموش رہنے والوں اور باتیں کرنیوالوں میں بٹا ہوا تھا۔ ـ بَینَ یَدَیہِ: کے سامنے، کے آگے، کی موجودگی میں، کی حاضری میں، اسکے ساتھ، اس پر، اس کے قبضہ میں۔ لاسلاحَ بَین یدیه: اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، وہ غیر مسلح ہے۔ فیما بینَ ذلك: اس دوران میں، اس اثناء میں۔ فیما بینی و بین نفسی: اپنے دل میں، اپنے جی میں، دل میں۔ بین ذراعیه: اس کے بازوؤں میں۔ مِن بینهم: ان میں سے۔ بین: وقت و آخر۔ بینَ فَترةٍ و اُخری: بعض اوقات، وقتاً فوقتاً۔ بَیَانُ: جمع بَیَانات صفائی، وضاحت، صراحت، سچائی، راستی، کھلا ہوا ہونا، واضح ہونا، بیان، اعلان، اظہار، ظہور، انکشاف، تجلی، تشریح، توضیح، تفسیر، شرح، اطلاع؛ خبر، (سرکاری) رپورٹ (سرکاری) بیان، خلاصہ، تحریر، بیان مجمل، فہرست مضامین، فہرست، جوش بیانی، طلاقت، فصاحت۔ علمُ البیان: علم انشا، فن خطابت، بلاغت، معانی بیان۔ عطف البیان: وضاحت کن، بدل کے طور پر استعمال۔ بَیَانِی: تشریحی، واضح کرنیوالا، مرصع، جذباتی۔ بَیِّنَة جمع بَیِّنات: صاف ثبوت، ناقابل اعتراض گواہی، شہادت جس میں بحث کی گنجائش نہ ہو، دستاویز جو شہادت کا کام دے۔ بینة ظَرفِیة: جزئیات یا قرائن پر مبنی گواہی واقعاتی شہادت۔ علی بَیِّنَة: جیسا کہ ثابت ہوا۔ کان علی بینة من: سے پوری طرح آگاہ ہونا، سے اچھی طرح باخبر یا بڑا باخبر ہونا، کے متعلق تازہ ترین معلومات پر مشتمل یا تازہ ترین معلومات کا حامل ہونا۔ اَبیَن: زیادہ صاف، زیادہ واضح، زیادہ صریح۔ تِبیَان: بیان، تشریح، دلیل، حجت، مظاہرہ، مجاہرہ، اظہار۔ تبیین و اِبانة: بیان، تشریح، اظہار، مظاہرہ، تمثیل۔ تَبَایُن: فرق، اختلاف، مختلف ہونا، عدم مشابہت، تفاوت۔

تَبَایُنی: مختلف، غیر متشابہ، متفاوت۔ بائِن: صاف، واضح، ظاہر، آخری، فیصلہ کن، اٹل، ناقابل تنسیخ (طلاق)، بہت طویل، بہت اونچا۔ بائِنُ الطول: بہت (لمبا) غیر معمولی لمبا (آدمی)۔ بائنة: دلہن کا جہیز۔ مَبیُونة: فاصلہ۔ مُبِین: صاف، واضح، ظاہر۔ الکتابُ المبین: قرآن مجید۔ مُتَبَایِن: مختلف، غیر مشابہ، اختلافی، اختلاف ظاہر کرنے والا، فرق رکھنے والا، رنگ برنگ، گوناگوں۔

باہ: بَاهَ یَبَاهُ بَیْهًا لہ: سے واقف ہونا، کو جاننا، مطلع ہونا۔

بیو: البُیُورُدی و البُیُورُلدی: سلطان یا وزیر کا حکم یا انکا فرمان (ترکی فعل ہے، جس کا معنی: حکم دیا گیا ہے یا حکم صادر ہوا ہے۔ اس کی عربی التقلید ہے۔

بیّ: بَیَّاكَ اللّٰه: اللہ تعالیٰ تجھے مالک بنائے یا تیرا درجہ بلند کرے۔ کہا جاتا ہے: هَیّ بن بَیّ یا هَیّان بن بَیّان: گمنام، جس کا اور جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ لستُ ادری ایُّ هی بن بیّ هو: میں نہیں جانتا وہ کون ہے؟

ت

ت: تلفظ تاء جمع تاءات۔ حروف تہجی کا تیسرا حرف۔ مونث ہے۔ نسبت کے لئے تَانِي و تَاوِي و تَيَوِي جیسے: قصیدة تائيَّة و تاويّه و تيَوِيّة۔ حروف ابجد میں ۴۰۰ کے برابر ہے۔ متکلم اور مخاطب کے لئے فعل کے آخر میں آتا ہے جیسے: قمتُ و قمتَ و قمتِ و قُمتُما و قُمتُم و قمتُنَّ۔ تانیث کیلئے حرف کے طور پر آتا ہے جیسے: قائمة اور ضربَتْ میں۔ جنس کی واحد کی تمیز کیلئے بھی آتا ہے جیسے شجرة میں جو شجر کا واحد ہے۔ نیز مبالغہ کے لئے بھی آتا ہے جیسے فَهّامَة میں۔ قسم کے لئے حرف جر ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اسم کو جر دیتا ہے جیسے تاللّٰهِ میں۔ کبھی اس کے سوا کو بھی جر دیتا ہے جیسے تربّي میں۔ زائد بھی ہوتا ہے اور منتھی الجموع کے صیغہ سے یا تو نسب پر دلالت کے لئے جیسے مهالِبة میں جو مهلّبي منسوب کی جمع ہے۔ یا محذوف حرف کے بدلہ کیلئے جیسے: زنادقة میں جو زنديق کی جمع ہے۔ علاوہ ازیں افعال کے شروع اور وسط میں بھی زیادہ کیا جاتا ہے جیسے: تقاتل و اقتتل میں۔ اسماء کے آخر میں بھی آتا ہے جیسے ملكوت کی تاء کی طرح۔ کلمہ کے اوّل میں محذوف حرف تاء زائدہ کی جگہ بھی آتا ہے: جیسے عِظَة میں جو اصل میں وعظ ہے۔ یا اس کے آخر کی جگہ جیسے شَفَةٌ جس کی اصل شَفَهٌ ہے۔

تا: تا جمع اولاء، مثنّی: تان۔ اسم ہے۔ جس کے ذریعے مونث مفرد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس پر هاء تنبیہ داخل ہوتی ہے: هاتا و هاتان و هؤلاء۔ مخاطبہ میں کاف کے ساتھ لاحق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں: تَاكَ و تَلكَ و تِيكَ و تِلكَ۔ اس میں تاء کی فتح ردی لغت ہے۔ مثنّی کے لئے: تانِكَ و تانَّكَ۔ جمع کیلئے: اُولٰئِكَ و اُولاكَ و اُولالِكَ۔ تلك کے سوا ان حالات میں هاء تنبیہ بھی داخل ہوتی ہے۔

تاب: ۱۔ التَّابوت جمع توابیت: لکڑی کا صندوق۔ اسی سے ہے۔ تابوتُ المیّت۔

۲۔ تابیر (ح): امریکا اور استوائی ایشیا کے مرطوب جنگلوں میں رہنے والا ایک جانور۔ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور گائے کے گوشت کی طرح ہوتا ہے۔

○ ت: ٹیلیفون کا مخفف۔

تَ: قسم کے شروع میں آتا ہے جیسے تَاللّٰهِ: خدا کی قسم۔

تَاء: حرف ت کا نام۔

○ تَابُوت جمع تَوَابِيت: صندوق، کیس case، پیٹی یا لوہے کی پیٹی، لکڑی کا صندوق، خزانے کا صندوق، زیور کا ڈبہ، چاندی سونے کی ڈبیا، صندوقچہ، تابوت، مردہ کو دفن کرنے کا صندوق۔ تابوتُ العهد: لکڑی کا صندوق جس میں توریت کی لوحیں محفوظ تھیں۔ تابوتُ السَاقِية: پانی نکالنے کا پہیہ۔ تَابِيُوكا: ایک درخت جس سے سوجی نکالی جاتی ہے۔

تاتا: تَأْتَأَ تَأْتَأَةً و تِئْتَاءً: تاء کی ادائیگی میں تتلانا صفت: تَأْتَاء۔ - الطفلُ: بچے کا چلنا۔ - المُحارِبُ: جنگ میں بہادر کا اکڑ کر چلنا۔

○ تَأْتَأَ: خوف یا دہشت سے ہکلانا، تتلانا، رک رک کر بولنا۔

تار: تَأَرَ - تَأْرًا ه: کو جھڑکنا۔ أَتْأَرَ إِتْآرًا ه بالعصا: کو لاٹھی مارنا۔ - نظرَهُ اليه: کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔

التارة جمع تارات و تِير و تِئَر: ایک مرتبہ، ایک دفعہ۔ کثرت استعمال کی وجہ سے ہمزہ ترک کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے: فعلتُ تارةً هذا و تارةً ذاك: میں نے ایک دفعہ یہ کیا اور ایک دفعہ وہ کیا۔ تارةً بعد تارة: بار بار۔

○ أَتْأَرَ البصره/ إلى: کو تکنا، گھورنا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا۔

تاز: تَأَزَ - تَأْزًا الجرحُ: زخم کا مندمل ہونا۔ - القومُ في الحرب: لڑائی میں لوگوں کا قریب قریب ہونا۔

○ تازه = طازَة: تازہ، نیا، نرم۔

تئق: تَئِقَ - تَأَقًا الاناءُ: برتن کا بھرنا۔ - الرجلُ: غصہ سے بھر جانا، غضبناک ہونا۔ صفت: تَئِق و مِتْآق۔ اس سے ضرب المثل ہے: أنا تَئِقٌ و أنتَ مَئِقٌ فكيف نتفق: میں غضبناک ہوں اور تو گھبرایا ہوا ہے پھر ہم کس طرح متفق ہوں؟ (دو مختلف عادتوں والے لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے۔) أَتْأَقَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ التَأَقة: غصہ کی شدت۔ بدی کی طرف تیزی سے بڑھنا۔

تام: ۱۔ أتأمتِ المرأةُ: عورت کا جڑواں اولاد جننا صفت: مُتْئِمٌ۔ اگر یہ اسکی عادت ہو یعنی ہر بار جڑواں بچے جنے تو اسے مِتْآم کہتے ہیں جس کی جمع مَتَائِيم ہے۔ تَاءَمَ اخاه: بھائی کے ساتھ جڑواں پیدا ہونا صفت: تِئْمٌ و تؤمٌ و تَئِيمٌ۔ التَوْأَم جمع تَوَائِم و تُؤَام مونث تَوْأَمَة: جڑواں۔ کہا جاتا ہے: هذا توأمُ هذا و هذه توأمةُ هذه: یہ اس کا جڑواں ہے اور یہ اس کی جڑواں ہے۔ جب دونوں جمع ہوں تو ان کو تَوْأَمان و تَوْأَم کہا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: هماز و جان و زوج۔

۲۔ أتأمَ الثوبَ: کپڑے کو دوہرے دھاگے سے بننا۔ صفت مفعولی: مِتْآم۔

۳۔ التَوْأَم: جوئے کے تیروں میں سے ایک تیر۔ تَوَائِمُ

النحوم او اللؤلؤ: گنجان ستارے یا موتی۔
○ التامیز: دریائے ٹیمز (thethames)
○ تای: چائے۔ تای احمر: بلیک ٹی۔
○ تابور و تاییر جمع تابورات و تاییرات: خواتین کا سلا ہوا سوٹ۔

تبّ: ۱۔ تبّ - تبّا الشیءَ: کو کاٹنا۔
۲۔ تبّ - تبّا و تبَبًا و تبیبًا: ہلاک ہونا۔ کہا جاتا ہے: تبّا له: اللہ تعالیٰ خسران اور ہلاکت اس کے لئے لازم کردے۔ تبّت یداہ: خدا کرے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ — فلانًا: کو ہلاک کرنا۔ تبّب فلانًا: سے تبًّا لك کہنا، کو ہلاک کرنا۔ التباب: نقصان، ہلاکت۔ التبّة: سخت حالت۔
۳۔ أتبّ ہ: کو کمزور کرنا۔ إستتبّ الرجلُ: کمزور ہونا، عاجز ہونا۔ التاب جمع أتباب: بوڑھا اور کمزور آدمی کہا جاتا ہے: کنتُ شابًا فصرتُ تابًا: میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا۔ التباب: کمی۔
۴۔ إستتبّ الطریقُ: راستہ کا بہت چلنے والا ہونا۔ — الامرُ: کام کا درست ہونا، ٹھیک ہونا، درستی کی حالت میں جاری رہنا۔
۵۔ تبتب الرجل: بوڑھا ہونا۔
○ تبّ - تبًّا و تبًّا و تبابًا: ہلاک ہونا، برباد ہونا، تباہ ہونا۔ إستتبّ: مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، جمنا، قائم ہونا، باقاعدہ ہونا، باترتیب ہونا، حسب معمول ہونا، خوب ترقی کرنا، آگے بڑھنا یا جاری ہونا۔ استتبّ له الامرُ: کے لئے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونا۔ تبًّا له: خدا کرے وہ ہلاک ہو، اسے تباہی آئے۔ إستتباب: حسب معمول ہونا، باقاعدگی، طبعی ہونا، یکسانیت، باضابطگی، حسن ترتیب۔ ترتیب، نظم، پائداری، استحکام، موافق ارتقا یا رفتار۔
○ التبت: تبت (ایک ملک کا نام)۔

تبر: ۱۔ تبِرَ - تبرًا: ہلاک ہونا۔ تبّرَ - تبرًا ہ: کو ہلاک کرنا، کو توڑنا۔ تبّرہُ: کو ہلاک کرنا، برباد کرنا۔ التبار: ہلاکت۔ المتبور: ہلاک ہونے والا۔
۲۔ أتبرَ عن الأمرِ: کام سے پیچھے ہٹنا، رکنا۔
۳۔ التِبر واحد تبرة: سونے کا ڈھیلا جو نہ ڈھلا ہوا ہو نہ سکہ کی شکل میں ہو بلکہ کان کی مٹی میں ہو۔ — المتبور: ناقص۔ التابور جمع توابیر: فوجی دستہ (ترکی لفظ) التبریة (طب): بالوں کی جڑوں کی بھوسی۔
○ تبّرَ - تبرًا ہ: کو تباہ کرنا، برباد کرنا، نیست و نابود کرنا۔ تِبر: خادم دھات، سونے کا چورا، سونے کے ڈھیلے، کچی دھات فلز۔ تبار: تباہی، بربادی۔ تبریة: بفا، سر کی خشکی۔
○ تبریز: تبریز (شمال مغربی ایران کا شہر، آذربائیجان صوبے کا دارالحکومت)۔

تبع: ۱۔ تبِعَ - تبعًا و تباعًا و تباعةً و اتّبع ہ: کے پیچھے چلنا، کے ساتھ جانا، کا مطیع و فرمانبردار ہونا۔ صفت: تبَع (واحد اور جمع دونوں کے لئے) جمع أتباع و تابِع جمع تبَع و تبَعة و توابِع و تبّاع۔ — الشیءَ: کے نشان پر چلنا۔ تبّع ہ: کی پیروی کرنا۔ — به کذا: کو سے لاحق کرنا۔ تابع بین الاعمال: کام لگاتار کرنا۔ — الحدیثَ: بات اچھی طرح بیان کرنا۔ — العملَ: کو مستحکم کرنا، میں ماہر ہونا۔ — فلانًا علی الامر: سے کام پر موافقت کرنا۔ کہا جاتا ہے: تابعنی بما له عندی: اس نے مجھ سے اپنی ان چیزوں کا مطالبہ کیا جو میرے پاس تھیں۔ اتبع ہ: کی پیروی کرنا، سے جاملنا۔ — ہ کذا: کو سے لاحق کرنا۔ تتابعتِ الاخبارُ: خبروں کا ایک دوسرے کے بعد آنا۔ تتبّع الأمرَ: دیر تک کسی کام کی تلاش و جستجو کرنا۔ کہا جاتا ہے: تتبّعتُ احوالهُ: میں اس کے احوال کی ٹوہ میں لگا رہا۔ إستتبعهُ: کو کے پیچھے چلنے کے لئے کہنا، کو کے پیچھے چلانا۔ التابِع: کے پیچھے چلنے والا، خادم۔ التابع او الدلیل لمقدار متحول: وہ مقدار جس کی قیمت تغیر پذیر چیز کی قیمت کے تعین سے متعین کی جائے۔ مربع کی مساحت جو اسکے ضلع کے تابع ہو اور ضلع معلوم ہونے پر متعین کی جائے۔ تابع متزاید: وہ تابع جو تغیر پذیر کے بڑھنے سے بڑھے اور کم ہونے سے کم ہو۔ تابع متناقص: وہ تابع جو تغیر پذیر چیز کی کمی سے بڑھے اور اس کے زیادہ ہونے سے کم ہو۔ تابع دائری او مثلثی: تغیر پذیر چیز کا تابع جو قوس الدائرہ کہلاتا ہے، سایہ۔ التابعة: خادمہ۔ التِبع: تابع۔ التِبِع: بہت تابعداری کرنے والا۔ التبِعة جمع تبِعات و التِباعه جمع تِباعات: ذمہ داری نتیجہ، انجام معلول۔ اس کا استعمال شر میں زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے: لهذا الفعل تبِعة: اس کام سے برائی اور نقصان پہنچے گا۔ التبیع جمع تِباع و تبائع: مددگار، پیروی کرنے والا۔ التِباع: تابع کا مصدر۔ کبھی صفت بن آتا ہے۔ جیسے اس قول میں: وشهدنا هُنّ ایامًا تِباعًا: ہم نے انہیں کئی دن لگاتار دیکھا۔ التُبّع جمع تبابِیع: سایہ۔ الاتباع: ... کسی ایسے لفظ کا لانا جو پہلے لفظ کا ہموزن ہو اور معنی میں قوت پیدا کرے۔ جیسے کثیر بثیر او خبیث نبیث: بہت بہت، خبیث ہی خبیث۔ التابِعی: تابع اور تابعہ سے نسبت۔ شرع اسلامی میں وہ مسلمان جس نے رسول اللہ کے صحابہ سے ملاقات کی ہو اور مسلمان فوت ہوا ہو۔ صحابی وہ مسلمان جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور آپ کی صحبت میں زندہ رہا ہو۔
۲۔ التابع: آسیب، بھوت پریت، بدروح۔ التابعة: مادہ آسیب، بھوت پریت، بدروح۔ التِبع: عاشق کہا جاتا ہے: هو تِبع الکرم: وہ فیاضی کا عاشق و دلدادہ ہے۔ التُبّع جمع تبابیع: شہد کی بڑی مکھی جمع التبابعه: یمن کے بادشاہوں کا لقب۔
○ تبِع - تبعًا و تباعةً ہ/ ہ: کی پیروی کرنا، کے پیچھے آنا یا جانا، کا پیچھا کرنا، کی تابعداری کرنا، کا اتباع کرنا، نشانات دیکھ کر چلنا، کے پیچھے چلنا، — ہ: کا تعاقب کرنا، کو مدنظر رکھنا، کے درپے ہونا، کا اتباع کرنا، سے چپکنا، چسپاں رہنا، پر عمل کرنا، پر عمل پیرا ہونا، (سڑک) سے جانا، سڑک یا راستہ سے آغاز کرنا، سے متعلق ہونا، کی ملک ہونا، کارکن یا فرد ہونا۔ — ہ: کا ماتحت ہونا، سے لگاؤ ہونا، کے ماتحت ہونا۔ تبِع الدروسَ: کلاسوں میں باقاعدگی سے حاضر ہونا۔ تابَعَ ہ/ ہ: کی پیروی کرنا، کی نئی صورت حال پر نگاہ رکھنا، کو یاد رکھنا۔ — ہ علی: کسی معاملہ میں کسی سے متفق ہونا۔ — ہ/علی: سے متفق ہونا، ہم آہنگ ہونا۔ — ہ/ ہ: کا تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، کے بارے میں مزید تجسس سے کام لینا، — ہ: کو جاری رکھنا۔ — سیرہُ: اپنا سفر جاری رکھنا۔ — ہ: پر جمے رہنا، کو جاری رکھنا۔ اتبع: (وقت اور رتبہ وغیرہ میں) جانشینی کا سبب ہونا۔ — ہ ہ: کو کی کمان یا اختیار کے تحت رکھنا، کو کا ماتحت بنانا۔ — ہ ہ: کو سے کمتر قرار دینا۔ تتبّع ہ: کو سمجھنا (خصوصاً موضوع، نئی صورت حال وغیرہ) کو نظر میں رکھنا، کا مطالعہ کرنا، — ہ/ ہ: کا تعاقب کرنا، کا کھوج لگانا، کا پیچھا کرنا۔ ہ: کا سراغ لگانا۔ — ہ ہ: کو کا ماتحت بنانا۔ تتابَعَ: لگاتار ہونا، مسلسل ہونا، پے درپے ہونا، پے درپے ہونا یا آنا، ایک دوسرے کے بعد آنا۔ میں توقف تسلسل قائم کرنا۔ اِتبع ہ/ ہ: کے پیچھے آنا، کے بعد میں آنا، کا جانشین ہونا۔ — ہ ب: کو کے بعد لانا۔ — ہ: کے خلاف قانونی کارروائی کرنا، پر مقدمہ چلانا، کے خلاف استغاثہ دائر کرنا۔ — ہ: کی پیروی کرنا، کو بجا

لانا، پر التفات کرنا، دھیان کرنا، توجہ کرنا، کا لحاظ کرنا، کا پاس کرنا، کو ذہن میں رکھنا، کو حاصل کرنے کیلئے جدوجہد کرنا، کا جائزہ لینا، کی تحقیقات کرنا، کا مطالعہ کرنا۔ اِتَّبَعَ علی: کسی چیز خصوصاً کسی خیال وغیرہ کے پیرو یا حامی رکھنا۔ اِتَّبَعَ سیاسة: کسی پالیسی کو مدنظر یا جاری رکھنا۔ اِتَّبَعَ یمینه: دائیں ہاتھ رہنا۔ اِسْتَتْبَعَ ہ ہ: کو کے پیچھے چلنے کے لئے کہنا، کو کے پیچھے چلانا۔ ـ ہ: کو بہکانا، ورغلانا، گمراہ کرنا۔ ـ ہ: کا لازم یا قدرتی نتیجہ ہونا، کا باعث ہونا، کی صورت پیدا کرنا۔ ـ ہ: کو اپنا ماتحت بنانا، تابع فرمان بنانا۔

تبع: جانشینی، کے بعد ہونا یا آنا، ایک دوسرے کے بعد آنا یا ہونا، ماتحتی، انقیاد، اطاعت، تابعداری، انحصار، حالی موالی، نوکر چاکر، ملازمین، مرید، شاگرد، چیلا، پیرو، جانشین، مصاحب تابع، کم درجہ کا، کم حیثیت کا، معاون، مددگار۔ بالتبع: یکے بعد دیگرے، پے در پے، لگاتار، تسلسل کے ساتھ، سلسلہ وار۔ تَبَعًا لِ: کے مطابق، کی تعمیل میں، پر عمل کرتے ہوئے، کی وجہ سے، کے باعث، کے نتیجہ میں، نتیجۃً جمع أَتْبَاع: پیرو، پیروکار، مرید، شاگرد، چیلا، ساتھی، حامی، حمایتی، وابستہ، وابستہ دامن، پکا حامی، کٹر، شہری، باشندہ، رعیت، متعلق، متعلقہ، ماجرا (ضمنی) واقعہ۔ عُقُوبَةٌ تبعية: ہنگامی سزا۔ تَبِعَة جمع تَبِعات: نتیجہ، ذمہ داری، فرض، منصبی۔ أَلْقَى التبعةَ علی: کو ذمہ دار بنانا۔ تَبِيع جمع تِبَاع: ملحقہ، زائد، مستلزم، منسلکہ جمع تَبَائع: پیرو، حامی، کٹر، پکا حامی، مصاحب، مددگار، مدد، ہاتھ بٹانے والا، معاون، خدمت گزار، خدمت گار، حاشیہ بردار، حاضر رہنے والا، شاگرد، چیلا، مرید، نوکر، خادم۔ تَبَعِيَّة جمع تبعيات ماتحتی، محکومی، تسلط، تابعداری، انحصار، شہریت، قومیت۔ بالتبعية: آگے چل کر، بعد میں، بعد ازاں، اس لئے، اس سبب سے، اس وجہ سے، لہذا، چنانچہ اس واسطے، پس، اندریں حال۔ تِبَاعًا: ایک دوسرے کے بعد، یکے بعد دیگرے، پے در پے، ایک ایک کرکے۔ مُتَابَعَة: پیچھا کرنا، تعاقب، تلاش، جستجو، پیروی کرنا، مدنظر رکھنا، استغاثہ، قانونی کارروائی، فوجداری مقدمہ، تسلسل، اجراء، استمرار۔ اِتْبَاع (گرامر) کسی لفظ کو دہرا کر اور اس کے حرف صحیح کی آواز تبدیل کر کے زور دار بنانا جیسے کثیر بثیر۔ تَتَبُّع: (دلیل، نئی صورت حال وغیرہ کو) نظر میں رکھنا یا غور سے سننا، جستجو، تعاقب، استغاثہ، جانشینی، رفتار، روش۔ التتبع التاریخی: تاریخی روش یا سلسلہ۔ تتبعات عدلية: قانونی کارروائی، استغاثہ۔ اِتِّبَاع: پیچھا کرنا، تعاقب، تابعداری کرنا، اتباع کرنا، کسی پالیسی کو مدنظر رکھنا (سے) وابستگی (کی) پیروی، (کی) تعمیل، (کی) پابندی، (پر) عمل۔ اِتِّبَاعًا لِ: کے مطابق، پر عمل کرتے ہوئے، کی پابندی میں، (کی) تعمیل میں، (کی) اطاعت میں، کی مطابقت میں، کے موافق۔ اِتْبَاعِي: ٹکسالی، اعلی درجہ کا معیاری، اونچا، مستند۔ اِتْبَاعِيَة: اعلی درجہ کے ادب اور لٹریچر کا اسلوب اور اس کے اصول۔ تَابِع جمع تَبَعَة و تُبَّاع: اگلا، ذیلی، ذیل کا، آنے والا، بعد میں آنے والا، بعد کا، بعد میں آنے والا، ماتحت، ضمنی، زائد، مددگار، وابستہ ماتحت، زیر حکم، تابع، محتاج، کمتر، کم درجہ کا، دوسرے درجے کا، تابع، ثانوی۔ ـ ل: کا ماتحت، کے تحت، سے متعلق، کسی کے اختیار یا صلاحیت کا محکوم، کا حامی، حمایتی، پیرو، طرف دار یا ہوا خواہ، سے وابستہ، سے وابستہ دامن، کا تابع۔ (جمع أَتْبَاع): حامی، حمایتی، پیرو، طرف دار، ہوا خواہ، وابستہ، وابستہ دامن، پیروکار، پکا حامی، کٹر، محکوم، شہری، باشندہ، ماتحت، خادم، ہر کام کرنے والا ملازم، (جمع توابع) تتمہ: ضمیمہ، اضافہ، قابل اضافہ چیز، کمی پوری کرنے کے لئے بڑھائی جانے والی چیز، مقدار جس کی قیمت دوسری چیزوں کی بدلتی قیمتوں پر منحصر ہو (ریاضیات میں)۔ الدُّوَل التابعة: ماتحت ملک۔ تَابِعَة جمع تَوَابِع: خادمہ، نوکرانی، جننی، گھر کا ساز و سامان، ماتحتی، تابعداری، انحصار، نتیجہ، حاصل، انجام، اثر، ذمہ داری، جمع توابع، محکوم علاقے، ماتحت ممالک۔ زیر نگیں ممالک۔ (الدُّوَلُ التَّوَابِعُ)۔ تَابِعِيَة: قومیت، شہریت۔ مَتْبُوع: جس کی خدمت کی جائے، رہنما، مالک۔ ـ ب: جس کے پیچھے کوئی آئے، جس کا کوئی پیچھا کرے۔ مُتَتَابِع: مسلسل، پیہم، متواتر، سلسلہ وار، لگاتار۔ مُتَّبَع (قاعدہ وغیرہ) جس پر عمل کیا جائے، جس پر عمل پیرا ہوا جائے، (رسم) جسے منایا جائے (سڑک، راستہ) جس پر سفر کیا جائے، جس سے جایا جائے۔

تبغ ۱۔ التَّبْغ (ن) تمباکو۔

۲۔ تَبْغِيَّة (ن) ایک پھولدار پودا۔

○ تِبْغ جمع تُبُوغ تمباکو۔

تبل ۱۔ تَبَلَ ـ تَبْلًا و اَتْبَلَ ہ الحبُّ او الدهرُ: محبت یا زمانے کا کسی کو بیمار کرنا۔ ـ ہ کی عقل زائل کرنا۔ صفت مفعولی: متبول و تبیل۔

۲۔ تَبَّلَ و تَابَلَ و تَوْبَلَ الطعامَ: کھانے میں مسالہ ڈالنا۔ التَّابَل والتَّابِل والتَّابُل جمع توابِل: مسالہ، کھانے کو مزیدار بنانے والی چیزیں، جیسے کالی مرچ زیرہ وغیرہ۔ التَّبَّال: مسالہ والا، مسالہ بیچنے والا۔

۳۔ التَّبْل جمع أَتْبَال و تُبُول (مص): کینہ، دشمنی۔ کہا جاتا ہے بينهما تَبْلٌ ان دونوں میں کینہ عداوت ہے۔ التُّوبال من النحاس و الحديد: تانبے اور لوہے کے ذرات جو کوٹنے پر گریں۔

○ تَبَلَ ـ تَبْلًا ہ: (محبت کا) کسی کو بیمار کر دینا، ضائع کرنا۔ تَبَّلَ و تَابَلَ و تَوْبَلَ ہ: کو مسالہ دار بنانا، چٹپٹا بنانا۔ تَابَل و تَابِل جمع تَوَابِل: کشنیز، دھنیا، مسالہ، گرم مسالہ، چٹنی، اچار، نمک مرچ، چاشنی۔ تَبُّولَه: ایک قسم کی سلاد۔ مَتْبُول: (محبت کی وجہ سے) بیمار، کمزور، پامال اور ضائع۔ مُتَبَّل: مسالہ دار، چٹپٹا، مزیدار۔ باذنجان مُتَبَّل: مسالہ بھرا بینگن۔

○ تَبْلُوه جمع تبلوهات بنائی ہوئی تصویر، پینٹنگ۔

تبن ۱۔ تَبِنَ ـ تَبَنًا و تَبَانَةً: سمجھ دار وزکی ہونا صفت تَبِن۔ تَبِنَ الرجلُ باریک بین ہونا۔

۲۔ تَبَنَ ـ تَبْنًا الدابةَ: جانور کو بھوسہ کھلانا۔ تَبَّنَ: بھوسہ گودام میں رکھنا۔ التِّبْن واحد تبنه: بھوسہ۔ التِّبْنِيّ: بھوسہ رنگ کا۔ التَّبَّان: بھوسہ فروش۔ (عام لوگ اس کو بھوسہ کے گودام کے معنی میں استعمال کرتے ہیں)۔ المَتْبَن: بھوسہ رکھنے کی جگہ، بھوسے کا گودام۔

۳۔ التُّبَّان: لنگوٹ، جانگھیا، نیکر۔ درب التَّبَّانة: (تک): کہکشاں (عام لوگوں کی زبان میں)۔

○ مَتْبَن جمع مَتَابِن: بھوسے کا پسا ہوا ڈھیر۔

تبا: تبا ـ تَبْوًا: حملہ کرنا، لوٹنا۔

تتر: التَّتَر واحد تَتَرِي: تاتاری لوگ۔ کہا جاتا ہے: جاءَ القومُ تَتْرَى و تَتْرًى: لوگ پے در پے آئے، اس کی اصل وَتْر ہے۔

تِتك: لبلبی، (بندوق کا) گھوڑا۔

تتن: التُّتُن: تمباکو۔

○ تِتَنُوس: کزاز، تشنج۔

تجر: تَجَرَ ـ تَجْرًا و تِجَارَةً و تَاجَرَ و اتَّجَرَ اِتَّجَرَ: تجارت کرنا، سوداگری کرنا۔ التَّاجِر جمع تِجَار و تُجَّار و تَجْر: تاجر، سوداگر، بیوپاری۔ عرب شراب فروش کو تاجر کہا کرتے تھے۔ ـ جمع تَوَاجِر رائج۔ کہا جاتا ہے: بضاعة تاجرة بازار

میں بکنے والا سامان (اس کی ضد کاسدہ ہے)۔ التجارۃ: نفع کی غرض سے خرید و فروخت، سوداگری، تجارت، سرمایہ، تجارت۔ المَتْجَر: تجارت، سرمایہ۔ اس سے ہے: صَنْعَۃٌ فی متجر الحمد رَابِحَۃ۔ المَتْجِرۃ جمع مَتَاجِر: منڈی۔ کہا جاتا ہے: ارضٌ مَتْجَرۃٌ: تجارتی ملک۔

○ تَجَرَ ـُ و تَاجَرَ و اِتَّجَرَ فی/ب: کی تجارت کرنا، کا کاروبار کرنا۔ تَاجَرَہ: کے ساتھ کاروبار کرنا۔ تِجارۃ: تجارت، بیوپار، لین دین، بڑے پیمانے پر تجارت، سوداگری۔ تجارتی مال، مال تجارت۔ تِجَاری: تجارتی، کاروباری۔ بیت تجاری: کاروباری ادارہ، فرم۔ الحرکۃ التجاریۃ: تجارت۔ شِرکۃ تجاریۃ: تجارتی کمپنی۔ اتفاق تجاری: تجارتی اتحاد۔ مَتْجَر جمع مَتَاجِر: کاروبار، سودا، معاملہ، لین دین، سامان تجارت، سٹور، دوکان۔ مَتْجَری: تجارتی، کاروباری۔ اِتِّجار ب: کی تجارت، کا کاروبار۔ تاجر جمع تُجّار و تِجار: سوداگر، تاجر، کاروباری آدمی۔ تاجر الجملۃ: تھوک بیوپاری۔ تاجر التَّجْزِئۃ و تاجر القِطَاعِیّ: پرچون فروش، خوردہ فروش۔ بِضَاعَۃٌ تاجِرَۃ: قابل فروخت سامان تجارت۔

تحت: ۱۔ تَحُت جمع تُحُوت: ظرف مکان بمعنی نیچے۔ اس کے لئے اضافت ضروری ہے۔ دوسری صورت میں بنی بر ضمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: جاءَ مِن تحتُ: وہ نیچے سے آیا۔ التُّحُوت: کمینے لوگ۔ التَّحْتَانِیّ: نیچے کا، نیچے سے متعلق، نچلا۔

۲۔ تَحْتَحَ ہ من مکانہ: کو جگہ سے حرکت دینا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یُتَحْتَح من مکانہ: فلاں شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ التَّحْتَحۃ: حرکت قسم کی حرکت کی آواز۔

○ تَحْتَ: نیچے۔ تحتَ التَّجرِبۃ: آزمائشی تجرباتی حالت میں، زیر تجربہ۔ تحت التحضیر: زیر تیاری، تحتَ الحفظ: زیر حراست، زیر نگہبانی۔ تحتَ السداد و تحت التسدید: واجب الادا۔ تحتَ اِشراف: کے زیر سرپرستی، کے زیر انتظام۔ تحت الشعور: تحت الشعوری، نیم شعوری۔ تحتَ تَصَرُّفِہ: اس کے ہاتھ میں، اس کے سپرد، اس کی تحویل میں۔ تحتَ الطَّبْع: زیر طباعت۔ تحت عنوانِ ـ: کے زیر عنوان۔ تحتَ اَعْیُنِنا: ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تحت التمرین: زیر تربیت۔ تحتَ الیَد: موجود، حاضر، پیش نظر، قریب ہی، برتنے میں سہل۔ تحتَ یَدِہ: اس کے اختیار میں۔ مِن تحتِ: نیچے سے، نیچے۔ تَحْتَانی: نچلا۔ مَلابِسُ تحتانیۃ: زیر جامہ underwear۔

تحف: اَتْحَفَہُ الشیءَ و بالشیءِ و اتَّحَفَہُ بہ: کو کوئی چیز بطور ہدیہ دینا، بطور تحفہ پیش کرنا۔ التُّحفہ والتُّحَفَۃ جمع تُحَف: ہدیہ، تحفہ۔ بڑھیا قیمتی چیز، ہر وہ چیز جو بطور لطف و مہربانی کسی کو پیش کی جائے۔

○ اَتْحَفَہ ب/ہ: کو کوئی تحفہ دینا، تحفہ پیش کرنا۔

○ تُحْفَۃ جمع تُحَف: تحفہ، ہدیہ، خوبصورت اور انمول شئے، عجیب شئے، انوکھی شئے، نادر شئے، نادرۂ روزگار، نیکی یا خیر کی کوئی چیز، آرٹ کی کوئی چیز، آرٹ کا کوئی کام۔ تحفۃ فَنِّیّۃ: آرٹ کا فقید المثال کام۔ مَتْحَف جمع مَتَاحِف: عجائب گھر، عجائب خانہ۔ متحف الشمع: موی پتلوں کی نمائش گاہ۔

تحم: ۱۔ تَحَمَ ـُ تَحْمًا الحائِکُ الثوبَ: جولاہے کا کپڑے پر بیل بوٹے ڈالنا، کاڑھنا۔ التَّاحِم: جولاہا۔

۲۔ اِتْحَمَّ اتْحِمَامًا: سخت سیاہ ہونا یا سرخی مائل سیاہ ہونا۔ صفت اَتْحَم۔ التُّحْمَۃ: سیاہی کی شدت، لالی، سرخی۔ الاَتْحَم: سخت سیاہ۔

تخ: ۱۔ تَخَّ ـُ تُخُوخَۃً العجینُ: گندھے ہوئے آٹے میں خمیر اٹھنا، ترش ہونا۔ —— تَخًّا و اَتَخَّ العجینَ او الطینَ: گندھے ہوئے آٹے یا مٹی میں پانی بڑھانا تا کہ وہ نرم ہو جائیں۔ التَّخّ: خمیرہ آٹا۔

۲۔ التَّخّ: نکوں کا نچوڑ۔

تخت: ۱۔ التَّخْت جمع تُخُوت: تخت، پلنگ، کپڑوں کی الماری۔ تخت المملکۃ: مملکت کا دار الحکومت۔ تختُ المَلِك: شاہی عرش، تخت شاہی۔

۲۔ التَّخْتَخَۃ: زبان کی لکنت، ہکلا پن۔ التَّخْتَاخ والتَّخْتَخَانِیّ: ہکلا۔

○ تَخَّ ـُ تَخًّا: ترش ہونا، کھٹا ہونا، خمیرا ہونا۔

○ تَخْت جمع تُخُوت: پلنگ، چارپائی، صوفہ، بنچ، بینچ، سیٹ، چیزوں کی نمائش کی الماری، صندوق، خزانے کا صندوق، الماری، کپڑوں کی الماری، جامہ دان، منبر، چبوترا، اسٹیج، شہ نشین، سنگت، سرودگاہ۔ تختُ المُلْك: عرش، تخت شاہی، شاہی محل، دار الحکومت۔ تخت المملکۃ: دار الحکومت۔ تخت رواں، تخت روان، محفہ، بچھروان، مچھر بردار شہ ڈالی، پالکی۔

○ تَخْتَۃ: بورڈ، ڈیسک، تختہ سیاہ۔

○ تَخْتَخَ: گلنا، سڑنا، مرجھانا، زوال پذیر ہونا۔

تخذ: تَخِذَہ: کو لینا۔

تخم: ۱۔ تَخَمَ ـِ تَخْمًا ہ: کی حد مقرر کرنا۔ تاخَمَ مُلکی مُلکَك: میرے ملک کی سرحد کا تیرے ملک کی سرحد سے متصل و ملحق ہونا۔ التُّخْم و التَّخْم جمع تُخُوم: سرحد۔

۲۔ تَخِمَ ـَ تَخَمًا و اتَّخَمَ: کو بدہضمی ہونا، اَتْخَمَ ہ الطعامُ: کھانے کا کسی میں بدہضمی پیدا کرنا۔

○ تَخِمَ ـَ تَخَمًا: بدہضمی میں مبتلا ہونا، زیادہ کھانے سے بیمار محسوس کرنا۔ اَتْخَمَ ہ: کو بہت زیادہ کھلا دینا، کا جی بھر دینا، زیادہ کھلا کر منہ پھیر دینا، کو بدہضمی کرنا، بیمار کرنا۔ —— ہ: (پیٹ) میں زیادہ کھانا ٹھونسنا، پیٹ بھر دینا۔ اِتَّخَمَ: بدہضمی ہو جانا، زیادہ کھانے سے بیمار محسوس کرنا۔ تُخَمۃ و تُخْمَۃ جمع تُخَم و تُخَمات: بدہضمی۔ مَتْخُوم: بدہضمی میں مبتلا، بدہضمی کا، بدہضمی سے نڈھال، جسے بدہضمی کی شکایت ہو۔ تَخَمَ ـِ تَخْمًا ہ: کی حدیں مقرر کرنا، کی حد بندی کرنا، کی سرحد مقرر کرنا، کی حد کا کام دینا، کی حد کے اندر رکھنا، کی حد ہونا۔ تَاخَمَ ہ: سے متصل ہونا، ملحق ہونا، ملا ہوا ہونا۔ تَخْم و تُخْم جمع تُخُوم: حد، سرحد، حد فاصل۔ مُتَاخِم: متصل، ہمسایہ، قریبی۔

تدر: التَّدْرُج و التَّدْرُج جمع تَدَارِج (ح): ایک خوبصورت لمبی دم والا پرندہ (فارسی لفظ)۔

○ تَدْرُج و تَدْرُجَۃ: چکور، دراج۔

○ تَدْمُر: جس کا تلفظ عموماً تُدْمُور کیا جاتا ہے۔ شام کے ایک قدیم شہر کا نام، جو اب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اسے palmyra کہا جاتا ہے۔ تَدْمُرِی (تلفظ تُدْمُرِی) کوئی ایک۔ لا تدمری: کوئی بھی نہیں، کوئی زندہ روح نہیں۔

تر: ۱۔ تَرَّ ـُ تَرَارَۃً الرجلُ: موٹا اور ڈھیلا ہونا۔ صفت: تارّ۔

۲۔ تَرَّ ـُ تَرًّا و تُرُورًا عن قومہ: اپنی قوم سے جدا ہونا، دور ہونا۔ —— العظمُ: ہڈی کا کٹ کر گر جانا۔ اَتَرَّہ: کو دور کرنا۔ —— یَدَہ: کا ہاتھ کاٹنا۔ التَّرِی من الایدی: کٹا ہوا ہاتھ۔

۳۔ التُّرّ: اصل، جڑ، معمار کا سوت۔

○ تَرَابِیزَۃ جمع تَرَابِیزات: میز

○ تَرَاخُوما: آنکھ کی ایک بیماری جس میں پپوٹے کے

اندر والے نکل آتے ہیں۔Trachoma۔

○ تِرَاس جمع تراسات ڈھلان کے اوپر کا چبوترہ، روش (گھر یا باغ میں) اونچی جگہ یکساں مکانوں کی قطار (terrace)۔

○ تِرَام و تِرَامواي ٹرام، ٹرام وے tramway۔

ترب: ا۔ تَرِبَ - تَرَبًا المكانُ: جگہ کا بہت مٹی والا ہونا۔ ـــ الشيءُ (کو) مٹی لگنا۔ ـــ تَرَبًا و مَتْرَبًا الرجلُ محتاج ہونا صفت: تَرِيب و تَرُوب جمع تِراب۔ اسی سے ہے: تَرِبَ بعدان أتْرَبَ: وہ مالدار ہونے کے بعد محتاج وفقیر ہوگیا۔ تَرَّبَ و أتْرَبَ مالدار ہونا، تہی دست محتاج ہونا (ضد)۔ ـــ الشيءَ: پر مٹی ڈالنا۔ تَتَرَّبَ مٹی ہونا، خاک آلود ہونا۔ التُراب جمع أتْرِبة و تِرْبان۔ مٹی۔ التُرْب و التُرُب: مٹی۔ التَرْباء: مٹی۔ زمین، کہتے ہیں: بينهما مابين الجرباء و التَرباء: ان دونوں کے درمیان آسمان اور زمین جیسا فرق ہے۔ (دیکھو جربا، مادہ جرب میں)۔ التُرْبة جمع تُرَب: مٹی، مقبرہ۔ تُرْبة الانسان: انسان کی قبر۔ التَرِب: غریب محتاج۔ ريحٌ تَرِبة: خاک اڑانے والی ہوا۔ لحمٌ تَرِبٌ: خاک ملا گوشت۔ مَكانٌ تَرِبٌ: بہت مٹی والی جگہ۔ المَتْرَبة: فقرو فاقہ۔ کہا جاتا ہے: مسكينٌ ذومَتْرَبة: خاک آلود مسکین۔

۲۔ تَارَبَ ہ: کا ہم عصر ہونا، دوست ہونا۔ ـــ ت فلانةٌ فلانةً: فلاں عورت فلاں کی دوست اور ہمجولی ہے۔ التِرْب جمع أتْراب: ہم عمر، ہم سن، دوست، ساتھی۔ اس کا اکثر استعمال مونث میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هده تِرْبُ فلانةٍ وہ اس کی ہم عمر ہے۔

۳۔ التَرِبة جمع تَرِب ایک قسم کی گھاس۔ ـــ جمع تَرِبات انگلیوں کے پورے۔ التَرِيبة جمع تَرائِب: سینہ کی ہڈی، سینہ کا بالائی حصہ۔ تَرِيبة البعير: اونٹ کے نحر کی جگہ۔

○ تَرِب - تَرَبًا: گرد آلود ہونا یا ہو جانا، گرد سے اٹا ہوا ہونا یا ہو جانا۔ تَرَّبَ و أتْرَبَ ہ/ھ: کو دھول یا مٹی سے ڈھانپنا، ڈھانکنا۔ تارَبَ ہ: کا ساتھی ہونا، کا ہم عمر ہونا۔ تَتَرَّب: گرد آلود ہونا، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہونا۔ تِرْب جمع أتْراب: ہم عمر، ہم عصر، ساتھی۔ تَرِب: گرد آلود، گرد و غبار سے اٹا ہوا۔ تُرْبة جمع تُرَب: مٹی، گرد و غبار، کیچڑ، میدان، قبر، مقبرہ، قبرستان، دفن کرنے کی جگہ۔ تُرَبي جمع تُرَبية: گورکن۔ تُراب جمع أتْرِبة و تِرْبان: گرد، زمین، کیچڑ، میدان، مٹی۔ تُرابي: خاک آلود، گرد آلود، غبار اٹا، سفوف بنا ہوا، سفوف سا، پسا ہوا، جس کو بآسانی سفوف بنایا جا سکے۔ مٹی جیسا، مٹی کا، • گرد و غبار میں اٹا ہوا، بھورا۔ تُرابة: سیمنٹ۔ تَرِيبة جمع تَرائِب: سینہ، چھاتی۔ مَتْرَبة: غربت، خواری، تہی دستی محتاجی جمع مَتارِب: کیچڑ بھری کان۔ مُتْرِب: گرد آگود، گرد و غبار سے اٹا ہوا۔

○ تَرْبَس (=دَرْبَس) ہ: (دروازے کو) چٹخنی لگانا۔ تِرْباس جمع تَرابيس و تَرابِس چٹخنی، ٹکنی، بلّی، کھٹکا۔

○ تَرْبَنْتِين: تارپین کا تیل۔

○ تَرْبِيزة: میز۔

○ تُرْبِين جمع تُرْبينات: چرخ turbine

ترتر: تَرْتَرَ تَرْتَرَةً: جلدی جلدی اور بہت بولنا، گفتگو میں نرم اور بدن میں ڈھیلا ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو خوب ہلانا۔ تَتَرْتَرَ: ہل جانا۔ التَراتِر: سختیاں۔

○ تِرْتِر: سونے چاندی کے سلمے ستارے۔

ترج: ا۔ تَرِجَ - تَرَجًا الرجلُ: کے لئے کسی چیز کا مبہم اور نامعلوم ہونا، گول مول یا غیر واضح ہونا۔ تَرَجَ - تَرْجًا: چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ التَرِيج مونث تَرِيجة: مضبوط پٹھوں والا۔ کہا جاتا ہے: ريحٌ تَرِيجةٌ: تیز و تند ہوا۔

۲۔ تَرْجَمَ الكلامَ: کا ترجمہ کرنا، دوسری زبان میں وضاحت کرنا صفت تَرْجُمان و تُرْجُمان جمع تَراجِمة و تَراجِم: کہا جاتا ہے: تَرْجَمَه بالتركية: اس نے اس کا ترکی میں ترجمہ کیا۔ ـــ عنه: کے معاملہ کو واضح کرنا۔ التَرْجَمة جمع تَراجِم: ترجمہ۔

۳۔ تُرْجِمَ الكلامُ: کلام کا مشتبہ ہونا۔

۴۔ تَرْجَمَ الرجلَ: کسی شخص کے عادات و فضائل بیان کرنا، کسی شخص کی سوانح حیات لکھنا۔ التَرْجَمة جمع تَراجِم: کسی شخص کی سوانح حیات۔ تَرْجَمة الكتاب: کتاب کا دیباچہ۔

○ تَرْجَمَ ہ عن إلى: کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا۔ ـــ ہ: کی تشریح کرنا، توضیح کرنا، کا مطالب سمجھانا، کی ترجمانی کرنا، کے متعلق ہونا، پر ہونا بطور تشریح، کی تفسیر بیان کرنا، کو تفصیل سے سمجھانا یا پیش کرنا۔ تَرْجَمَ ہ/ل: کی سوانح حیات، سیرت یا ... لکھنا۔ تَرْجَمة جمع تَراجِم: ترجمہ، تشریح، سوانح حیات، سیرت، تذکرہ۔ (تَرْجَمةُ الحياة: سوانح حیات، سیرت تذکرہ)۔ تعارف، دیباچہ، پیش لفظ (کتاب کا) الترجمة السَبْعِينية: عہد عتیق کا یونانی ترجمہ، ہفتاوی ترجمہ، سَبْعِيني۔ تَرْجُمان جمع تَراجِمة و تَراجِيم: مترجم، ترجمان، سوانح نگار، سیرت نویس۔ مُتَرْجَم: ترجمہ شدہ۔ مُتَرْجَمٌ على الفِلم: ایکشن کے ساتھ بیک وقت آواز والی (فلم) ہم وقت ایکشن اور آواز والی (فلم)۔

ترح: تَرِحَ - تَرَحًا و تَتَرَّحَ: غمگین ہونا۔ تَرَّحَ و أتْرَحَ ہ: کو غمگین کرنا۔ التَرَح جمع أتْراح: غم اور پریشانی یا تشویش، افلاس، محتاجی، فقیری۔ التَرِح: بہت غمگین، کم خیر والا۔ المِتْراح من النوق: تھوڑی مدت دودھ دینے والی اونٹنی۔

ترز: ا۔ تَرَزَ - تَرْزًا ہ: کو پچھاڑنا۔ التُراز: اچانک موت۔

۲۔ تَرَزَ - و تَرِزَ - تَرْزًا و تَرَزًا و تُرُوزًا الشيءُ: خشک ہونا، سخت ہونا، مضبوط ہونا۔ ـــ الماءُ: پانی کا جم جانا۔ ـــ الشيءَ: کو سخت کرنا، خشک کرنا۔ کہا جاتا ہے: الجري يُتْرِزُ لحم الدابةِ: دوڑ جانور کے گوشت کو سخت کر دیتی ہے۔ التارِز: مضبوط اور سخت (اسی سے ہے: ان عجينكم لتارِزٌ: تمہارا خمیر سخت ہے) خشک و بے روح، مردہ۔

○ تَرْزي جمع تَرْزِية: درزی۔ تَرْزِية: سینے پرونے کا کام، درزی کا کام۔

ترس: ا۔ تَرَّسَ ہ: کو ڈھال پہنانا یا دینا، کو ڈھال دلوانا۔ ـــ و تَتَرَّسَ ڈھال پہننا اور اس سے حفاظت کرنا، چھپنا صفت: تارِس۔ کہا جاتا ہے: لايستوي الراجِلُ و الفارِسُ و الأكْشَفُ و التارِس: پیدل اور سوار اور بے ڈھال اور ڈھال والا برابر نہیں ہوتے۔ الأكْشَف کا معنی ہے جس کے پاس ڈھال نہ ہو۔ اِتَّرَسَ بالترس او غیرہ: ڈھال وغیرہ سے اپنی حفاظت کرنا۔ التُرْس جمع أتْراس و تِراس و تُرُوس و تِرَسة: ڈھال۔ تُرْسُ الشمس: سورج کی ٹکیہ۔ یہ مجاز ہے۔ کہا جاتا ہے: غابَ تُرْسُ الشمس: سورج غروب ہو گیا۔ المِتْرَس و المِتْرَسة جمع مَتارِس و المِتْراس جمع مَتارِيس: مورچہ، کھائی۔ التَرّاس: ڈھال بنانے والا، ڈھال والا، ڈھال کا حامل۔ التِراسة: ڈھال بنانے کا پیشہ۔

۲۔ أتْرَسَ الباب: دروازہ بند کرنا۔ المِتْرَس و

المُتْرَسَة جمع مَتَارِس و المِتْرَاس جمع مَتَارِيس: دروازے کے پیچھے لگانے کا ڈنڈا۔

٣۔ التَرْسَانَة و التَرْسْخَانَة: اسلحہ خانہ، (بحری) جہاز سازی کا کارخانہ۔ (ترکی زبان کا لفظ)۔

○ تَرَّس: ڈھال یا زرہ بکتر مہیا کرنا۔ تُرْس جمع اَتْرَاس و تُرُوس: ڈھال، سورج کی ٹکیہ۔ تِرْس جمع تُرُوس: دندانے دار پہیہ، گئر (gear)، صندوق التُرُوس: گئر بکس gear box، گئروں کا نظام: (the system of gears) transmission۔ سَمَكُ التُرْس: ایک بڑی چپٹی مچھلی جو کھانے میں لذیذ ہوتی ہے (turbot)۔ مَتْرَس و مِتْرَس جمع مَتَارِس اور مِتْرَاس جمع مَتَارِيس: چٹخنی، دروازہ بند کرنے کا کھٹکا، فصیل، دیوار، پشتہ، قلعہ، چار دیواری، ستر پناہ، کچا پشتہ، کچی مورچہ بندی، عارضی روک، عجلت میں تیار کیا ہوا مورچہ۔ متارِيس: کچے پشتے، کچے مورچے، عارضی رکاوٹیں، کچی مورچہ بندیاں، عجلت میں تیار کئے ہوئے مورچے۔ تَرْسانه و تَرْسْخَانَة: اسلحہ خانہ، میگزین، ہتھیار گھر، مرکز جہاز سازی shipyard، گودیاں، بندرگاہ۔

○ تَرِسِكْل: ٹرائیسکل، تین پہیوں کی سائیکل، trycycle۔

○ تَرِيْسِيْنَة: بالکونی (balcony) چھجا، شہ نشین۔

ترش: تَرِشَ - تَرَشًا: بدخلق ہونا صفت: تَرِش۔

ترص: تَرُصَ - تَرَاصَةَ الشيءُ: مضبوط ہونا، سیدھا ہونا صفت: تَرِيص۔ تَرَّصَ و أَتْرَصَ الميزانَ: ترازو کو سیدھا کرنا، صفت مفعولی: تَرِيص و مُتْرَس کہا جاتا ہے: اَتْرِص مِيزانَك فانه شائِل: اپنی ترازو ٹھیک کر لے کیونکہ اس کا پلڑا اٹھا ہوا ہے۔ المُتْرَصات: سیدھے نیزے۔

ترع: ١۔ تَرِعَ - تَرَعًا: برائی کی طرف سبقت کرنا صفت: تَرِع و تَرِيع۔ تَتَرَّعَ اليهِ بالشرّ: کسی کو برائی جلدی سے پہنچانا۔

٢۔ تَرَعَ - تَرْعًا ه عن الأمر: کو سے روکنا، باز رکھنا۔ تَرَّعَ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ التُرْعَة جمع تُرَع: دروازہ۔ کہا جاتا ہے: فتح ترعةَ الدار: اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ التَرَّاع: دربان۔

٣۔ تَرَعَ - تَرَعًا الكوزُ او الحَوضُ: کوزے یا حوض کا بھر جانا صفت تَرَع۔ اَتْرَعَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ اِتْرَعَ الإناءُ: برتن کا بھر جانا۔ التَرَّاع و الاَتْرَع من السيل: وادی کو بھر دینے والا سیلاب۔

التُرْعَة جمع تُرَع: باغ، باغ کو جانے والی نالی، دو دریاؤں یا سمندروں یا پانی کے دوسرے قطعوں کے درمیان ہاتھوں سے بنائی ہوئی گہری نہر۔

○ تَرِعَ - تَرَعًا: برتن کا پُر ہونا یا ہو جانا۔ اَتْرَعَ ه: کو خصوصاً برتن کو بھرنا۔ تُرْعَة جمع تُرَع و تُرَعَات: نہر (canal)، کشتی پانی یا جہاز رانی کے قابل مصنوعی گزرگاہ۔ تُرعةُ الايراد: آبپاشی کی نہر، معاون ندی (feeder)۔ ترعة التصريف: پانی کے نکاس کی نہر۔ الترعةُ الشَرِيفة: شاہ مراکش کی قیام گاہ۔

ترغ: التِرْغَلة (ح) جنگلی کبوتر۔

○ تُرْغُل و تُرْغُلَة: جنگلی فاختہ۔

ترف: ١۔ تَرِفَ - تَرَفًا و تَتَرَّفَ: خوش حال و آسودہ حال ہونا صفت: تَرِف و تَرِيف تَرَّفَ و اَتْرَفَ ه المالُ: کو مال و دولت کا سرکش بنانا، خراب کر دینا۔ أُتْرِفَ الرجلُ: سرکشی پر اصرار کرنا۔ اِسْتَتْرَفَ: بغاوت کرنا، سرکشی کرنا۔ التُرْفَة: نعمت، آسائش کی زندگی۔ المُتْرَف و المُتَرَّف: خوشحال، من مانیاں کرنے والا اور کوئی اسے روک نہ سکے۔

٢۔ التُرفة: اوپر کے ہونٹ کے وسط میں فطری ابھار۔ الأَتْرَف: وہ شخص جس کے اوپر کے ہونٹ میں فطری ابھار ہو۔

٣۔ التِرْفاس (ن): ایشیا اور افریقہ کے صحراؤں میں زمین کے نیچے رہنے والی ایک قسم کی کھمبی جس کی جڑیں کھانے کو لذیذ بناتی ہیں۔ (truffle)۔

○ تَرِفَ - تَرَفًا: متمول زندگی گزارنا، عیش و عشرت و ناز و نعمت کی زندگی گزارنا۔ اَتْرَف ه: کو کمزور بنانا، بزدل بنانا، نامرد بنانا، کو فراواں وسائل فراہم کرنا، کو عیش و عشرت اور ناز و نعمت سے گھیرے ہوئے ہونا۔ تَطَرَّف: تمول کی زندگی بسرنا، عیش و عشرت میں ہونا، ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنا۔ تَرَف و تُرْفَة: عیش و عشرت، ناز و نعمت، فراوانی، دولتمندی، تونگری، مرفہ الحالی، دولت کی بہتات و کثرت، بزدلی، نامردی، زن صفتی، زنانہ پن۔ تَرِف: دولتمند، مالدار، تونگر، فراواں پر تکلیف، گراں قدر، بیش قیمت، عیش پرست، عیش و عشرت کا دلدادہ۔ — ب: سامان عیش و عشرت سے آراستہ، آراستہ پیراستہ، مزین، بہت زیادہ سجا ہوا، سامان عیش و عشرت سے آرائش کیا ہوا۔

ترق: التَرْقُوَة جمع التَرَاقِي و التَرَايق (ع ا): ہنسلی، کہا جاتا ہے: تَرْقَاهُ تَرْقَاةً: اس نے اس کی ہنسلی پر مارا۔ بلغتْ روحُهُ التَراقي: وہ دم بلب ہوا۔

ترك: تَرَكَ - تَرْكًا و تِرْكانًا و اَتْرَكَهُ: کو چھوڑنا، نظر انداز کرنا، فراموش کرنا، سے غفلت کرنا، بے توجہی کرنا، تغافل کرنا، کو بھول جانا۔ تَارَكَ مُتارَكَةً و تِراكًاه: کو چھوڑنا۔ — الرجلَ: سے مصالحت کرنا۔ تتَارَكوا الامرَ بينهم: کے چھوڑنے پر اتفاق کرنا۔ تَرَاكِ: فعل امر کا اسم بمعنی: اُتْرُكْ: چھوڑ دے۔ التَرْكَة والتَرِيكَة: وہ عورت جو اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہے اور کوئی اس سے شادی نہ کرے۔ شترمرغ کا چھوڑا ہوا انڈہ، بچہ نکلنے کے بعد انڈے کا خول، خود (جو فوجی سر پر رکھتے ہیں) التِركة والتَرِكة: چھوڑی ہوئی چیز۔ اسی سے ہے: تركةُ الميتِ: مرنے والے کا ترکہ۔ التريك: چھوڑا ہوا۔ — من الكرم او النخل: انگور یا کھجور کا خوشہ یا گچھا جب سب کھا لیا گیا ہو یا تھوڑا چھوڑ دیا گیا ہو۔ التَرَّاك: بہت چھوڑنے والا۔

○ تَرَكَ - تَرْكًا ه: کو چھوڑ دینا، کا حلفیہ انکار کرنا یا تردید کرنا، کو ترک کرنا، سے دستبردار ہونا، قطع تعلق کرنا، کو ماننے سے انکار کر دینا، سے باز رہنا، سے پرہیز کرنا، احتراز کرنا، محترز رہنا، اجتناب کرنا۔ — ه: کو چھوڑ دینا، — ه (کسی جگہ سے) چلے جانا، کو چھوڑ دینا، ایک چیز چھوڑ کر دوسری کی طرف جانا، (بے عزتی) پی جانا، کو نظر انداز کرنا، میں غفلت کرنا، کو کرنا بھول جانا، نہ کرنا، کو گرانا۔ — ه الی بالِ: کو پر چھوڑنا، — ه ل: کیلئے کوئی چیز بطور ترکہ، میراث، ورثہ پیچھے چھوڑ جانا، کسی چیز کو بطور ترکہ کے حوالے کرنا۔ کے لئے کسی چیز کو ورثے میں چھوڑنا، ترکہ چھوڑنا، کو کوئی چیز میراث کے طور پر دینا۔ تَرَكَهُ يفعلُ: کو کچھ کرنے دینا۔ تَرَكَ مكانا إلى: ایک جگہ کو دوسری جگہ کے لئے چھوڑنا۔ تَرَكَهُ في ذِمَّتِهِ: کو کی زیر نگرانی چھوڑنا، کو کے لئے چھوڑنا۔ تَرَكَهُ على حالِهِ: کسی چیز یا شخص کو بلا تغیر چھوڑنا کسی چیز یا شخص کو چھوڑنا۔ تَرَكَهُ وَ شَأْنَهُ: کو تنہا چھوڑنا، کو اپنی تدبیر آپ کرنے دینا۔ تَارَكَ ه: کو چھوڑنا، کو تنہا چھوڑنا، کے خلاف جارحانہ اقدامات چھوڑنا، روک دینا۔ تَرْك: چھوڑ دینا، غفلت، تغافل، تساہل، ترک کرنا، چھوڑ بیٹھنا، چھوڑنا، پیچھے چھوڑنا۔ تَرِكَة جمع تَرِكات (نیز تِرْكَة): ورثہ، ترکہ، میراث۔ تَرِيكَة جمع ترائِك: بوڑھی بن بیاہی عورت، بوڑھی کنواری، نا کتخدا عورت۔ مُتَارَكَة: التوائے جنگ، عارضی صلح، متارکہ۔ مَتْرُوك جمع متروكات: ترکہ، ورثہ، میراث۔

○ تَرَّكَ ہ: کوترکی بنانا۔ استترك: ترکی ہوجانا، ترکی رسم ورواج اختیار کرنا۔ التُّرك و الأتراك: ترک (لوگ)۔ تُركي: ترکی کا، ترکی کا باشندہ۔ التُّركِيّة: ترکی زبان۔ تُركيا: ترکی (ملک)

○ تُركِستان: ترکستان (ملک)۔ التُّركُمان: ترکمان۔

ترم: ا۔ التَّرامْوای: برقی ٹرین، ٹرام وے۔ ترامیسیس: پیشاب کی نالی کے ورموں کے علاج کی دوا۔

۲۔ تَرْمَسَ: لڑائی سے غائب ہوجانا۔

۳۔ تَرْمَسَتِ الدابّةُ: جانور کے جبڑے کے اندر کی جانب ترمس کے مشابہ پھنسیاں نکلنا۔ التُّرْمُس (ن): ایک قسم کی نباتات جس کا بیج مزے میں کڑوا ہوتا ہے اور پانی میں بھگوکر استعمال کیا جاتا ہے۔

۴۔ التِّرْمُس (ف): تھرماس thermos

۵۔ التِّرْمُومِتْر (طب): حرارت پیا thermo-meter جسے عربی میں میزان الحرارۃ کہتے ہیں۔ جو حرارت یا تپش معلوم کرنے کا ایک آلہ ہے۔

○ تَرْمُبِيط جمع تَرمبيطات: (مغربی) ڈھول، ڈھولک۔ تُرمُبيطَة جمع تُرمُبيطات: ڈھول، ڈھولک خصوصاً نیچے سروالا ڈھول یا ڈھولک تُرمُبطجي: دہل نواز، طبل نواز، ڈھولچی، بینڈوالا، باجے والا۔

○ تُرمُسٌ و تُرمُوس: باغوں میں اگایا جانے والا ایک اونچا پودا جس کا لمبا نوک دار تنا ہوتا ہے جن پر چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں۔ یہ پھول نیلے، اودے، پیازی سفید یا پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ (lupin یا luprine)۔

ترنج: التُّرُنج (ن): لیموں، لیموں کا درخت، اسے الأُتْرُجّ بھی کہا جاتا ہے۔ عام لوگ اس کو کبّاد کہتے ہیں۔

۲۔ التُّرُنجان (ن): ایک خوشبودار پودا جنوبی یورپ اور مشرق وسطی کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے، الکوحلی مشروبات کے طور پر استعمال کیا جاتا، کئی طبی فوائد کا حامل ہے۔

۳۔ الترانزیت (ت): سامان تجارت کی کسی شہر یا ملک کے علاقہ سے گزرنے کی راہ داری کسی محصول کی ادائیگی کے بغیر۔

ترہ: تَرِهَ - تَرَهًا: مصائب میں پڑنا۔ التُّرَّهَة جمع التُّرَّهات: باطل، بے سود کام، مصائب، چھوٹے راستے۔ التُّرَّة جمع ترارِیه: باطل۔

○ تَرِهَ - تَرَهًا: بے کار کاموں یا باتوں سے دلچسپی لینا یا ان میں مصروف ہونا۔ تُرَّہ جمع تُرَّهات: بناوٹ، دکھاوا، مذاق، ڈھونگ، لایعنی بکواس، مضحکہ خیز ڈھونگ، جھوٹ، بکواس، ہنسی ہنسی میں دیا ہوا جھانسا۔

○ تِرْوادَہ: ٹرائے (troy)۔

○ تِرُوب: سکواڈ، پلاٹون، سکواڈرن۔ تِروب سَوَارِي: گھڑسوار سکواڈرن، رسالہ۔

تری: ا۔ تَرَى - تَرْيًا في الأمر: کسی کام میں دیر کرنا۔

۲۔ التِّرْياق: زہر کے اثر کو دور کرنے والی دواء۔ — والتِّرْياقة: شراب (غموں کو دور کرنے کی وجہ سے)۔

○ تَرِيكو: ایک قسم کا ہاتھ کا بنا ہوا اونی کپڑا، ابھری ہوئی دھاریوں کا کپڑا۔

تسع: تَسَعَ - تَسْعًا القومَ: کا نواں ہونا، کا نواں بنانا، کے مال کا نواں حصہ لینا۔ — المالَ: مال کا نواں حصہ لینا۔ أَتْسَعَ القومُ: نو ہوجانا۔ التِّسْعَة جمع تِسْعات جس کا مونث تِسْعٌ ہے۔ (ع ح) نو۔ کہا جاتا ہے: تِسْعَةُ رجال: ۹ مرد۔ تِسْعُ نساءٍ: نو عورتیں۔ تِسْعَةَ عَشَرَ رجلاً: ۱۹ مرد۔ تِسْعَ عشرةَ امرأةً: ۱۹ عورتیں۔ التُّسْع و التَّسِيع: نواں حصہ۔ جمع أتساع۔ التّاسِع: نواں۔ تِسْعُون: نوے۔ تُساع: نو نو۔ کہا جاتا ہے: جاء القومُ تُساعَ: لوگ نو نو کر کے آئے۔ یہ غیر منصرف ہے۔ التُّساعِيّ: نو والا۔ التُّساعِيَّة: معین عیدون سے نو دن قبل مسیحیوں کے نزدیک پڑھی جانے والی نماز۔ وہ اسے تِسْعَوِيّة بھی کہتے ہیں۔ التاسُوعاء: مہینہ کا نواں دن۔ مُتَسُوع: نو لڑیوں سے بٹی ہوئی۔ حبل مُتَسُوع: نو لڑیوں سے بٹی ہوئی رسی (سریانی لفظ)۔

تشر: تِشْرِين جمع تَشارِين: شمسی سال کے دو مہینے: اکتوبر و نومبر۔ تِشْرِين الاول: اکتوبر۔ تِشْرِين الثاني: نومبر۔ التَّشارِين: موسم خزاں، عام لوگوں کے نزدیک: توت کے درخت کے پتے جو ان دو مہینوں میں توڑ کر گائیوں وغیرہ کو کھلائے جاتے ہیں۔ اسی سے ان کا یہ قول ہے تَشْرِنَ بَقَرَةً: اس نے ماہ اکتوبر و نومبر میں توت کے پتے توڑ کر اپنی گائیوں کو کھلائے۔

○ تشیکوسلوفاکیا: چیکوسلواکیا czchoslovakia (ایک ملک کا نام)۔

○ تشیلی: چلی (chile) ایک ملک کا نام۔ تطوان: شمالی مراکش کے ایک شہر کا نام Tetuan۔

تع: تعالیٰ کا مخفف۔ دیکھو علو۔

تعّ: تَعَّ - تَعًّا و تَعَّا: ڈھیلا ہونا، قے کرنا۔

تعب: تَعِبَ - تَعَبًا: تھکنا، مشقت میں پڑنا صفت: تَعِب۔ أَتْعَبَ ہ: کو تھکانا۔ — فلانٌ نفسَهُ: اپنے آپ کو اپنے پر عائد کیے ہوئے فرائض کی سرانجام دہی میں تھکانا۔ — القومُ: کے جانوروں کا تھکا ہوا ہونا۔ التَّعَبُ جمع أتعاب: تھکن۔ المَتْعَب والمَتْعَبَة جمع مَتاعِب: تھکن، تھکاوٹ، تھکن کی جگہ، تھکن کا باعث وسبب۔ کہا جاتا ہے: إستِخراجُ المعمّى مَتْعَبَةٌ للخواطر: معمے کا حل کرنا دلوں کو تھکا دیتا ہے۔

۲۔ أَتْعَبَ الإناءَ: برتن کو بھرنا۔

○ تَعِبَ - تَعَبًا: مشقت کرنا، محنت کرنا، غلامی کرنا، چاکری کرنا، تھکنا۔ — من: سے تھک جانا، تھکا ماندہ ہونا۔ أَتْعَبَ ہ: کو تکلیف دینا، تھکا دینا، اکتا دینا، کا ناک میں دم کرنا۔ تَعَب جمع أتعاب: تکلیف، مشقت، محنت، چاکری، بوجھ، تکلیف دہ کام یا چیز، مشکل، سختی، تھکن، تھکاوٹ جمع أتعاب: فیس fees، اعزازیہ (honorarium)۔ تَعِب: تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔ مَتاعِب: تکلیف، کوششیں، مشکلیں، شکایتیں، علالتیں، بیماریاں، روگ سختیاں، حد سے زیادہ بوجھ، حد سے زیادہ کوشش کے نقصانات۔ مُتْعِبٌ: تکلیف دہ، پرمشقت، محنت طلب، اجیرن، بوجھل، بھاری، اکتا دینے والا، گراں، ناگوار، پریشان کن، تھکا دینے والا، بے لطف، بے کیف، بیزار کن۔ مُتْعَب: تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔

تعتع: تَعْتَعَ ہ: کو سختی سے ہلانا۔ — في الكلام: بات کرنے میں ہکلانا۔ التَّعاتِع: خوف زدہ کرنے والی جھوٹی خبریں۔ کہا جاتا ہے: وقعوا في تعاتِعَ: وہ جھوٹی خبروں اور ہذیان میں پھنس گئے۔

○ تَعْتَعَ: ہکلانا۔ — ہ: کو ہلانا۔ اِتْعَتَعَ: ہلنا، حرکت کرنا۔

○ تعِزّ: تعز (جنوبی یمن کا ایک شہر)۔

تعس: ا۔ تَعَسَ - و تَعِسَ - تَعْسًا و تَعَسًا: ہلاک ہونا۔ تَعَسَ - و أَتْعَسَ ہ اللّٰهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بدنصیب بنانا، ہلاک کرنا۔ کہا جاتا ہے: تَعْسًا لَهُ: اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے۔ (مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ اس کا عامل محذوف ہے)۔ التَّعْس (مص): ہلاکت، بدی۔ المَتْعَسَة: ٹھوکر یا ہلاکی کا سبب۔ کہا جاتا ہے: هذا

الامرُ منحسةٌ متعسةٌ: یہ معاملہ باعث نحوست و ہلاکت ہے۔

۳۔ تعَسَ - و تعِسَ - تعْسًا و تعَسًا: پھسلنا اور منہ کے بل گرنا صفت تعِس و تاعِس و تعِیس۔ التَعْس: تنزل انحطاط۔ التعْسة: ٹھوکر۔

○ تعَسَ - و تعِسَ - تعْسًا و تعَسًا: گرنا، ہلاک ہونا، بدبخت ہو جانا، مصیبت زدہ ہو جانا، سخت بری حاجت میں ہونا۔ تعَسَ و اَتعَسَ ہ: کو سخت غمزدہ کرنا، یا ناخوش کرنا، کو تباہ کرنا۔ تعْس و تعَاسة: غم، سخت بری حالت، سخت غربت، نکبت، سخت تکلیف، افلاس، کم بختی، بدنصیبی۔ تعِس و تعِیس جمع تُعَسَاء: مصیبت زدہ، بدبخت، سخت غمزدہ، سخت بری حالت میں، بدقسمت، ناخوش۔ مَتعُوس جمع مَتاعِیس: بمعنی تعِس و تعِیس۔

تعص: تعِصَ - تعَصًا: زیادہ چلنے سے پٹھوں کا دکھنا۔

تغب: ۱۔ تغِبَ - تغَبًا: ہلاک ہونا۔ اَتغَبَ ہ: کو ہلاک کرنا۔ التغَب: ہلاکت۔

۲۔ التغْب و التغْبة: گناہ، قبیح۔ کہا جاتا ہے: مافیه تغْبةٌ: اس میں کوئی ایسا عیب نہیں جس کی وجہ سے اس کی شہادت رد کی جا سکے۔ التغَب: عیب، فساد، بھوک، میل کچیل۔

تغر: تغَرَ - تغَرانًا القدرُ: ہنڈیا کا ابلنا۔ تغَرًا و تُغُوراتِ السحابة: بادل کا پھٹ کر برسنا۔ العِرقُ: رگ سے بہت خون نکلنا۔ جُرحٌ تغّار: زخم جس سے خون بہتا ہو۔

تف: ۱۔ تفّفَ ہ: کو تف کہنا۔ التُفّ جمع تِفَفة: ناخن کا میل۔ التُفّة: حقیر و ذلیل عورت۔ التِفّان: وقت۔ کہا جاتا ہے: اتیتك بتِفّانه و علی تِفّانه: میں تمہارے پاس مناسب وقت پر آیا۔

۲۔ التُفّاف (ن): ایک پودا جس کا تنا کھوکھلا اور پتے دندانے دار ہوتے ہیں اور ٹوٹنے پر اس میں سے تھوڑا سا دودھ نکلتا ہے۔ التُفَفة (ح): ایک چھوٹا کیڑا جو کھال کو خراب کرتا ہے۔

○ تفَّ: تھوکنا۔ تفّفَ: چھی چھی کہنا۔ تُفًّا لَكَ: چھی چھی، شرم شرم۔ تفّافة: پیک دان، اگالدان۔

○ تِفتا و تِفتاہ: تافتہ دریائی، ریشم کا چمکدار کپڑا، سادہ بناوٹ کا ریشمی کپڑا۔ (Taffeta)

تفی: تفِیَ - تفًا: سخت ناراض ہونا۔ تفِینةُ و تفِیّةُ الشیء: کسی شے کا وقت۔

تفت: تفتّعَ الضحكَ: ہنسی یا قہقہہ کو چھپانا۔ الکلام: بات کو دہرائے جانا مگر واضح نہ کرنا۔ التفتفة: آواز میں بھاری پن۔

تفث: تفِثَ - تفَثًا: پر میل کچیل چڑھ جانا صفت تفِث - تفّثتِ الدماءُ مکانَه: خون کا جگہ کو آلودہ کرنا۔ التفَث: میل کچیل۔ کہا جاتا ہے: قضی تفَثَه: اس نے میل کچیل کو دور کیا۔

تفح: التفّاحُ جمع تفافیح۔ واحد تُفّاحة (ن): سیب کا درخت، سیب۔ المَتفَحة: سیب کی پیداوار کی جگہ۔ التُفّاحتان (ع ا): کولھوں میں رانوں کے سرے۔

تفر: ۱۔ اَتفَرَ الشجرُ: درخت کا کونپلیں نکالنا۔ التِفِرّة (ن): درخت کے نیچے اگنے والی گھاس یا وہ گھاس جس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جانور چر نہ سکے۔ تفِرة الشجر: درخت کی کونپلیں۔

۲۔ اَتفَرَ الرجلُ: کے ناک کے بالوں کا ہونٹ کے گڑھے تک لمبا ہونا۔ التِفِرّة و التُفُرّة و التَفْرة: اوپر کے ہونٹ کا گڑھا۔ التافِر و التفِر و التِفْران من الرجال: میلا اور گندہ آدمی۔

۳۔ التُفروق: خرما کا غلاف۔

○ تُفکة جمع تُفَك: بندوق، رائفل۔

تفل: ۱۔ تفَلَ - تفْلًا: تھوکنا۔ التُفل و التُفال: تھوک، جھاگ، پھیس، کف، فضلہ، میل۔ المِتفَلة جمع متافِل: پیک دان، اگالدان۔

۲۔ تفِلَ - تفَلًا الرجلُ: تیل اور خوشبو نہ لگانے کی وجہ سے بدبودار ہونا۔ صفت تفِل مونث تفِلة و مِتفال۔ اَتفَلَ ہ: کو بدبودار کرنا۔

۳۔ التُفُل و التَتفُل و التِتفَل (ح): لومڑی۔

○ تُفل و تُفال: تھوک، لعاب دہن۔ تفِل: بدبودار۔

تفہ: تفِهَ - تُفوهًا الرجلُ: کم عقل ہونا۔ صفت: تافِهٌ۔

۲۔ تفِهَ - تفاهةً الطعامُ: کھانے کا بے مزہ ہونا۔ تفِهٌ و تافِهٌ: بے مزہ چیز یا کھانا۔

۳۔ تفِهَ - تفَهًا و تُفوهًا الشیءُ: کم ہونا، خسیس ہونا، حقیر ہونا۔ کہا جاتا ہے: تفه عطاءُ فلان: فلاں شخص کی داد و دہش کم ہے۔ اَتفَهَ الشیءَ: کو کم کرنا، تھوڑا دینا۔ کہا جاتا ہے: اَعطیتَ فاَتفهتَ: تم نے دیا مگر کم دیا۔

○ تفِهَ - تفَهًا و تفاهةً و تُفوهًا: تھوڑا ہونا، کم ہونا، معمولی سا ہونا، بے حقیقت ہونا، غیر اہم ہونا، بے مزہ ہونا، بے لطف ہونا، پھیکا ہونا، بے کیف ہونا۔ تفَه و تُفوه: معمولی ہونا، بے حقیقتی معمولی چیز، فضول بات، غیر اہم ہونا۔ تفاهة: معمولی چیز، معمولی ہونا، بے حقیقی غیر اہم ہونا، بے مزہ ہونا، بے لطف ہونا، بے کیف ہونا، پھیکا ہونا، حماقت، بے وقوفی، سادہ لوحی۔ تفِه و تافِه: تھوڑا، معمولی سا، معمولی، غیر اہم، یونہی سا، بے کار، ناکارہ، فضول، عام، اوسط درجے کا، بے مزہ، بے لطف، بے کیف، فرسودہ، پامال، پیش پا افتادہ۔ تافِهة جمع تَوافِه: بے کار، فضول یا ناکارہ چیز، معمولی چیز، فضول بات۔

تقن: اَتقَنَ الامرَ: کو مضبوطی سے کرنا۔ تقّنَ الارضَ: زمین کو کیچڑ والے پانی سے سیراب کر کے طاقتور بنانا۔ التِقن: حوض کا بچا ہوا گدلا پانی، خشک ہو کر ترخا ہوا گارا، طبیعت، کہا جاتا ہے: الفصاحةُ من تِقنه: فصاحت اس کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ التِقنِیّة (اع): تکنیک، فنی قابلیت، صنعت گری، طریق کار، آداب فن، اصول فن۔

○ اَتقَنَ ہ: کی تکمیل کرنا، کے نقائص دور کرنا (زبان وغیرہ) کا استاد ہونا، پر حاوی ہونا، پر کمال حاصل کرنا، پر عبور ہونا، کو اچھی طرح جاننا، میں ماہر ہونا، کا کاریگر ہونا، میں منجھا ہوا ہونا، مشاق ہونا۔ تِقن: ماہر، ہنرمند، مشاق، آزمودہ کار، پھرتیلا، چابکدست، چالاک ہوشیار، مستعد۔ تقانة: مضبوطی، استواری، پختگی، تکمیل، لیاقت ہنر، کامل نمونہ۔ اَتقَن: زیادہ مکمل، زیادہ پورا، زیادہ پکا۔ اِتقان: تکمیل، پختگی، کمال، مکمل ہونا، درستی، صحت، بڑی صحت، پوری مہارت، مہارت، کمال، عبور، قبضہ، اقتدار (کسی خاص شعبہ وغیرہ میں)۔ فی غایة الاتقان: انتہائی طور پر کامل، عمدہ کاریگری یا صناعی کا۔ مُتقَن: کامل، مکمل، بالکل ٹھیک، بے کم و کاست، بہت محتاط، درست، نپا تلا، ہوشیار۔

تقی: دیکھو وقی۔

تك: ۱۔ تكّ - ہ النبیذُ: کو نبیذ کا مدہوش کر دینا۔

۲۔ تكّ - تكًّا ہ: کو روندنا، کچل دینا، پامال کرنا۔

۳۔ تكّ - تكوكًا الرجلُ: لاغر ہونا، احمق ہونا صفت تاكّ جمع تاكّون و تككة و تكّاك و تُكّك۔

۴۔ استتكّ التِكّةَ: پاجامہ میں ازار بند ڈالنا۔ التِكّة جمع تِكَك: ازار بند۔ المِتكّ: پاجامہ میں ازار بند ڈالنے کی سلائی۔ عام لوگ اسے مِسَلّة کہتے ہیں۔

○ تكَّ: گھنٹہ کا ٹک ٹک کرنا، گھڑی کا ٹک ٹک کرنا۔ تِکّة جمع تِکّات: گھڑی یا گھنٹے کی ٹک ٹک، ٹکٹک کی آواز۔

تکا: دیکھو تکأ۔

تکت: ۱۔ تَکْتَکَ تَکْتَکَۃً ہ: کو روند کر کچل دینا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ـــ ت الساعۃُ: گھڑی کا ٹک ٹک کرنا۔

۲۔ التَکْتِیک او التَکْتِیَۃ: کسی کام کی کامیابی کے لئے اختیار کردہ وسائل و ذرائع۔ (اع): فوجوں کی نقل و حرکت کی تنظیم کا فن۔

○ تَکْتَکَ: بلبلے اٹھانا، بلبلے کی آواز پیدا کرنا، آہستہ آہستہ کھولنا، ابلنا۔

○ تَکْتِیک: فوجی نقل و حرکت۔ موقع کے لحاظ سے فوجی چال، جنگ کے داؤ پیچ اور چالیں۔ جوڑ توڑ (tactics)۔

تکن: التکنیك او التقنیّۃ: کسی فن یا علم کا کام۔ کسی فن یا پیشہ سے متعلق تمام طریقے۔

○ تَکِیَۃ جمع تکایا: خانقاہ، صومعہ، ڈیرہ، دھرم سالہ، محتاج خانہ، معذوروں کے لئے پناہ گاہ۔

تکل: تکَلَ: دیکھو وکل۔

تل: ۱۔ تَلَّ ـ تَلًّا ہ: کو پچھاڑنا یا گردن اور رخسار کے بل گرانا۔ التَلَّۃ و التِلَّۃ: گرنے کی حالت۔ کہا جاتا ہے: رَمَاہُ بتلّۃ سوءٍ: اس نے اس پر برے فعل کی تہمت لگائی۔ التَلِیل جمع تُلُن: پچھاڑا ہوا۔ ـــ جمع اَتِلَّۃ و تُلُل و تَلائِل: گردن۔ المِتَلّ: وہ چیز جس سے کسی کو پچھاڑا جائے (کہا جاتا ہے: رمحٌ مِتلٌّ: سیدھا اور سخت نیزہ) قوی اور مضبوط آدمی یا اونٹ۔

۲۔ تَلَّ ـ تلّاً الشیءَ الیہ: کو کسی طرف دھکیلنا یا پھینکنا۔ ـــ الشیءَ فی یدہ: کو کے ہاتھ میں رکھنا۔ ـ الحبلَ فی البئر: کنویں میں رسی لٹکانا۔

۳۔ تَلَّ ـ الید کے سامنے عاجزی کرنا، گڑگڑانا۔

۴۔ اَتَلّ الدابّۃَ: جانور کو باندھنا، لیجانا (ضد)۔

۵۔ التَلّ جمع تِلال و تُلُول (واحد تَلَّۃ)۔ من الارض: ٹیلہ۔ التِلَّۃ: حالت۔ التلال و التلالہ: گمراہی۔

○ تَلّ جمع تِلال و اتلال و تُلُول: پہاڑی، بلندی، ارتفاع۔ تَلّ اَبِیب: مغربی اسرائیل کا ایک شہر۔ تُلّ: نقاب کے لئے نرم جالی کا کپڑا۔

تلأ: اِتْلَأَبَّ اتلئباباً الامرُ: کام کا درست ہونا، سیدھا ہونا۔ ـــ الحمارُ: گدھے کا سر و سینہ اٹھانا۔ ـــ الطریقُ: راستہ کا لمبا اور سیدھا ہونا۔ مُتْلَئِبّ: قیاسٌ مُتلئبٌّ: ایک ہی قسم کا قیاس۔ طریق مُتْلَئِبّ: لمبا اور سیدھا راستہ۔

○ تلاتِیل: سختیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں۔

تلب: التَلَب: نقصان۔ کہا جاتا ہے: تبّاً لہٗ و تَلَباً: اللہ تعالیٰ نقصان و ہلاکت اس کے لئے لازم کردے۔ المَتالِب: ہلاکت کی جگہیں، قتل گاہیں۔

تلد: تَلَدَ ـ و تَلِدَ ـ تُلُوداً فی القوم و بالمکان: کسی قوم یا جگہ میں قیام پذیر ہونا۔ کہتے ہیں: تَلَدَ فلانٌ عندنا: فلاں شخص کے ماں باپ ہمارے گھر میں پیدا ہوئے۔ تَلَدَ ـ تُلُوداً المالُ کالابل و الغنم: مال مویشی، قدیم اور موروثی ہونا۔ صفت تالِد و تَلْد و تُلْد و تَلَد و تِلاد و تَلِید: (اس کی ضد طارف ہے)۔ تَلَّدَ: مال جمع کرنا۔ اَتْلَدَ الرجلُ: موروثی مال والا ہونا۔

○ تَلِید و تالِد و تِلاد: موروثی، قدیم اور مقدس قدیم (قبضہ، جائداد)

تلس: التِلِسْکُوب: دوربین۔ (عربی میں اسے مرقب کہتے ہیں)۔

تلع: ۱۔ تَلَعَ ـ تَلْعاً و تُلُوعاً النہارُ: دن چڑھنا۔ ـــ ت الضحی: چاشت کا وقت ہونا۔ ـ الرجلُ او الظبیُ: آدمی یا ہرن کا سر باہر نکالنا۔

۲۔ تَلِعَ ـ تَلَعاً و تَلاعۃً الرجلُ: لمبی گردن یا لمبے قد والا ہونا صفت: اَتْلَع و تَلِیع۔ ـ ت عنقُہٗ: کی گردن کا دراز ہونا۔ اَتْلَعَ و تَتالَعَ و تَتَلَّعَ فی مشیتہ: چلنے میں گردن لمبی کرنا۔ التَلِع: ادھر ادھر بہت دیکھنے والا۔ التَلْعَۃ جمع تَلَعات و تِلاع و تِلَع: بلند زمین، پست زمین (ضد)۔

۳۔ تَلِعَ ـ تَلَعاً الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ التَلِع من الآنیۃ: بھرا ہوا برتن۔

○ اَتْلَعَ: اپنی گردن لمبی کرنا۔ ـــ ہ: کو گردن اٹھا کر دیکھنا۔ تَلْعَۃ جمع تِلاع: پہاڑی، ٹیلا، تودہ، پہاڑی کا پہلو، پہاڑ کا پہلو، تند و پرشور یا تیز دھارے والا ندی، نالہ یا دریا۔ تَلِیع: لمبا، باہر کو پھیلا ہوا، بڑھا ہوا، اونچا۔

تلغ: التِلِغْراف: ٹیلیگراف، ٹیلی گرام، تار کیبل۔ اَرْسَلَ تلغرافاً الی: کو تار بھیجنا۔ تِلِغرافی: تار کا، ٹیلیگراف کا یا ٹیلیگرام کا یا کے متعلق۔

تلف: ۱۔ تَلِفَ ـ تَلَفاً: ہلاک ہونا، تلف ہونا۔ اَتْلَفَ ہ: کو ہلاک کرنا، تلف کرنا، فنا کرنا۔ التَلِیفَۃ: ہلاک ہونے والی چیز، تلف ہونے والی چیز۔ المَتْلَف و المَتْلَفَۃ جمع مَتالِف: تلف اور ہلاک ہونے کی جگہ یا اس کا سبب، چٹیل میدان۔ المِتْلاف و التَلّاف: بہت تلف کرنے والا۔

۲۔ تَلْفَنَ: بذریعہ ٹیلیفون بات کرنا، ٹیلیفون کرنا۔ التِلِفُون: ٹیلیفون، عربی میں اس کے لئے ہاتف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔

۳۔ تِلِفِزیُون: ٹیلی ویژن، اس کی عربی تَلْفاز: دور سے دیکھنا، دورنمائی۔ التَلْفَزَۃ: ...

○ تَلْفَزَ: ٹیلی ویژن پر نشر کرنا، دور نمائی کرنا۔ تَلْفَزَۃ: دور نمائی، ٹیلیویژن۔ اِذاعۃ تَلْفَزِیّۃ: ٹیلی کاسٹ telecast۔ ٹیلیویژن براڈ کاسٹ۔ ٹیلیویژن پر نشر کرنا۔ تِلْفاز: ٹیلیویژن سیٹ television set۔ تِلِفِزْیُون: ٹیلیویژن۔

○ تَلْفَنَ: ٹیلیفون کرنا۔ تِلِفُون و تِلِیفُون: ٹیلی فون۔

○ تَلِفَ ـ تَلَفاً: نیست و نابود ہونا، تباہ ہونا، کو نقصان پہنچنا، تلف ہونا، برباد ہونا، ٹوٹنا، ٹوٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ تَلَّفَ ہ: کو برباد کرنا، تلف کرنا۔ ـ ہ: کو ختم کر دینا، تھکا دینا۔ اَتْلَفَ ہ: کو تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا، تباہ کرنا، نقصان پہنچانا، خراب کرنا، تلف کرنا، توڑنا، ضائع کرنا۔ تَلَف: تباہی، بربادی، نقصان، ضرر، خسارہ، ضیاع۔ تَلْفان: خراب کیا ہوا، تلف شدہ، بے کار، ناکارہ، فضول، ناکارہ شخص۔ مَتْلَف و مَتْلَفَۃ جمع مَتالِف: ریگستان، بیابان۔ مِتْلاف: نکما، نکھٹو، فضول خرچ، کھنڈر، نقصان دہ، ضرر رساں، مضر۔ اِتْلاف جمع اِتْلافات: تباہ کاری، بربادی، تباہی، فناء کامل، ضرر، نقصان۔ تالِف: تباہ کیا ہوا، نقصان زدہ، ٹوٹا ہوا، خراب کیا ہوا، برا۔ مَتْلُوف و مُتْلَف: تباہ شدہ، نقصان پہنچایا ہوا، ٹوٹا ہوا، خراب کیا ہوا، برا۔ مُتْلِف: نیست و نابود کرنے والا، تباہ کن، نقصان دہ، کھنڈر، ضرر رساں۔

تلم: ۱۔ التَلَم جمع اَتْلام: ہل کی بنائی ہوئی لکیر۔ التِلْم جمع تِلام: لڑکا، کاشتکار، سنار، سنار کی لمبی دھونکنی۔

۲۔ التَلْمُود: یہودی دینی احکام پر مشتمل کتاب۔

۳۔ تَلْمَذَ و تَلْمَذَ الولدَ: لڑکے کو شاگرد بنانا۔ ـــ لفلان: کا شاگرد ہونا۔ التِلْمِید جمع تَلامِید و تَلامِذَۃ: شاگرد۔

○ تَلْمَذَ ل/علی: کا شاگرد یا کارآموز ہونا یا جانا، سے علم یا تربیت حاصل کرنا۔ تَتَلْمَذَ ل/علی یدہ: کا شاگرد ہونا، کے ماتحت بطور شاگرد کام کرنا۔ تَلْمَذَۃ: ایام مدرسہ، کالج کے سال، شاگردی، آزمائشی مدت۔ تِلْماذ: علم و فضل، تبحر علمی۔ تِلْمِید جمع تلامید و تلامِذَۃ: شاگرد، طالب علم، کارآموز، آزمائشی (ملازم وغیرہ) تربیت پانے والا (trainee)، چیلا۔ تِلْمِید بَحْری: چیف وارنٹ chief warrant W-3 (ایک بحری مرتبہ)۔ تِلْمِیذَۃ جمع تِلْمِیذات: طالبہ علم۔

○ تِلِمْسان: شمال مغربی الجیریا کے ایک شہر کا نام۔

تلن: التَلُنَّۃ و التُلُونَۃ: حاجت، ضرورت۔

تله: تَلِهَ - تَلَهًا: حیران ہونا۔ ـــ ہ و تَلِهَ عنه: کو بھول جانا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ تالِهُ العقل و مَتْلُوهُ العقل: زائل شدہ یا کھوئی ہوئی عقل والا۔ ـــ الشيءُ: تلف ہونا۔ أَتْلَهَ الشيءَ: کو تلف کرنا۔

○ تَلِهَ - تَلَهًا: حیران وششدر ہونا، متحیر ہونا، حیران ہونا، نہ جاننا کہ کیا کرے یا کہے۔ تَالِه و مُتَلَّه: نہ جاننے والا کہ کیا کرے یا کہے، حیران، پریشان، الجھن میں پڑا ہوا۔ تَالِهُ العقل: خیالات میں کھویا ہوا، پرگندہ دماغ، سراسیمہ، بہکے ہوئے خیال والا۔

تلا: ا- تَلاَ - تُلُوًّا ہ: کے پیچھے چلنا۔ تَلَّى تَتْلِيَةً ہ: کے پیچھے چلنا۔ تَالَى ہ: کی تابعداری کرنا، موافقت کرنا۔ أَتْلَى ہ: سے سبقت لیجانا۔ ـــ ہ فلانًا: کو اپنے پیچھے چلانا۔ تَتَلَّى ہ: کے پیچھے چلنا، پیچھے پڑنا۔ کہا جاتا ہے: تَتَلَّيْتُ حقي: میں اپنے حق کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے پورا وصول کرلیا۔ تَتَالَتِ الامورُ او الخيلُ: ایک دوسرے کے بعد آنا، پے در پے آنا۔ کہا جاتا ہے: جاءت الخيل تَتَالِيًا: گھوڑے پے در پے آئے۔ اِسْتَتْلَى ہ الشيءَ: کو پیچھے کرنے کو کہنا۔ التالي جمع تَالِيَات۔ مونث التالية جمع التوالي: تابع۔ گھوڑ دوڑ میں چوتھے نمبر کا گھوڑا۔ التِلْو جمع أَتْلاء مونث تِلْوَة: ہر وہ چیز جو کسی چیز کے پیچھے ہو۔ اونٹنی کا دودھ چھڑایا ہوا بچہ، جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ التلو: ہمیشہ پیچھے چلنے والا۔ المُتَالي: تابع (مو) گویے کی آواز میں آواز ملانے والا۔ التوالي: سرین۔ توالي الخيل: گھوڑے کے پچھلے حصے یعنی دم اور ٹانگیں۔

۲- تَلاَ - تُلُوًّا عنه: کو چھوڑ دینا۔

۳- تلا فلانٌ بعد قومه: قوم کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ جانا۔ تَلِيَ - تَلًى من الشهر يومٌ: مہینہ کا ایک دن باقی رہنا۔ أَتْلَى ہ: کو پیچھے کرنا۔ ـــ و تَتَلَّى حقه عنده: اس کے پاس اپنے حق میں کچھ باقی رکھنا۔ التُلاوَة و التَلِيَّة: بقیہ۔ جیسے: تُلاوَةُ الدين: قرض کا بقیہ۔ کہا جاتا ہے: ذهبت تَلِيَّةُ الشباب: جوانی کا بقیہ جاتا رہا۔ فلانٌ بقيةُ الكرام و تَلِيَّةُ الأحرار: فلاں شخص بزرگوں اور شرفاء کی یادگار ہے۔

۴- تَلاَ - تِلاوَةً الكتابَ: کتاب پڑھنا۔

۵- تَلَّى الرجلُ: نذر پوری کرنا۔ آخری سانسوں میں ہونا، مرجانا۔

۶- أَتْلَى ہ علي فلان: کو فلاں کے حوالے کرنا۔

۷- أَتْلَى ہ ذِمَّةً: کو ذمہ دینا۔ التَلاَ: ذمہ، حفاظت کا عہد، قرابت، قرب، ہمسائیگی۔

۸- تَتَلَّى الرجلُ: بہت مال جمع کرنا۔ التَلِّي: بہت مالدار، بہت قسمیں کھانے والا۔

۹- اِسْتَتْلَى ہ: کا انتظار کرنا۔

○ تلا - تُلُوًّا: پیچھا کرنا، بعد آنا، بعد کو ہونا۔ ـــ تِلاوَةً ہ علي: کو کوئی چیز پڑھ کر سنانا۔ ـــ ہ: کو زبانی سنانا، سنانا۔ تَتَالَى: ایک دوسرے کے پیچھے آنا، لگاتار ہونا، مسلسل ہونا، پے در پے ہونا۔ تِلْوَ: بعد، پر۔ ارسل كتابًا تِلْوَ كتاب: خط کے بعد خط بھیجنا۔ تِلاوَة: پڑھنا، پڑھ کر سنانا، سنانا، زبانی، سنانا، نغمہ سرائی۔ تَال: حسب ذیل، ذیل کا بعد میں آنے والا، بعد کا، اگلا، قریب ترین۔ بالتالي: تب، پھر، بعد میں، بعدازاں، اس لئے، اس سبب سے، اس وجہ سے، لہٰذا چنانچہ، اندریں حال۔ مُتَتَالٍ: مسلسل، پیہم، متواتر، لگاتار، سلسلہ وار۔

○ تَلِّي: نقاب وغیرہ کے لئے، نرم جالی کا کپڑا۔

○ تليباثي: ٹیلی پیتھی، اشراق، تعلق ذہنی، ایک ذہن کا اثر کسی مادی وسیلہ کے بغیر دوسرے ذہن پر ہونا، ٹیلی پیتھی کے متعلق، ٹیلی پیتھی کا۔

○ تِلِيس و تِلِّيس جمع تلاليس: بورا، تھیلا، گٹھا۔

تم: ا- تَمَّ - تَمًّا و تِمًّا و تُمًّا و تَمَامًا و تِمَامًا و تُمَامًا و تَمَامَةً و تِمَامَةً: کامل ہونا، پورا ہونا۔ ـــ بالشيءِ و عليه: کو پورا کرنا۔ ـــ علي أمرِهِ: کو انجام دینا۔ تَمَّمَ ہ أَتَمَّ ہ: کو پورا کرنا۔ ـــ القمرُ (فلك): بدر کامل ہونا۔ ـــ تِ الحُبلي: حاملہ کا جننے کے قریب ہونا، حاملہ کا پورے دنوں کا ہونا۔ تَتَامَّ القومُ: سب لوگوں کا آنا۔ اِسْتَتَمَّ الشيءَ: کو پورا کرنا، کی تکمیل چاہنا۔ التَمَام: (ت کی تینوں حرکتوں کے ساتھ لیکن ان میں فتح غالب تر ہے): کمال، جس سے کوئی چیز تمام کی جائے اور اس معنی میں تَمّ و تِمّ و تُمّ و تِمامة و تَمامة (فلك): اس کی تکمیل ہیں۔ (کک) ليلةُ تمامِ القمر: چودھویں کی رات، بدر کی رات۔ کہا جاتا ہے: بدرُ تمامٍ و بدرٌ تمامٌ: چودھویں رات کا چاند۔ التَمِيم: پورے قد وقامت والا، مضبوط۔ التَتِمَّة: جس سے کوئی چیز پوری کی جائے۔

۲- تَمَّ - عنه العينَ: تعویذ باندھ کر نظر بد کو دور کرنا۔ تَمَّمَ المولودَ: بچہ پر تعویذ لٹکانا۔ التَمِيمَة جمع تَمائِم و تَمِيمات: تعویذ۔ إماطة التمائم: بڑے ہونے سے کنایہ ہے۔

۳- تَمَّ - إلي موضع كذا: کسی جگہ پہنچنا۔ تَمَّمَ ہ: کو کسی مدت تک پہنچانا۔ تَمَّمَ علي الجريح: زخمی کو مار ڈالنا۔ أَتَمَّ ہ: کو پورا کرنا۔ ـــ إلي المحل: کسی جگہ کا قصد کرنا اور جانا۔

۴- التَمّ: بڑی بط۔ التَمّ: کلہاڑا۔ التُمامة: بقیہ۔

۵- تَمْتَمَ تَمْتَمَةً في الكلام: جلدی جلدی بولنا اور بات کو واضح نہ کرنا۔ صفت: تَمْتَام۔ مونث: تَمْتَامَة۔

○ تَمَّ - : مکمل ہونا یا ہو جانا، ختم ہونا، کیا جانا۔ ـــ ل سے، (کی جانب یا طرف سے) کیا جانا، انجام دیا جانا، بجالایا جانا، پورا کیا جانا۔ ـــ: ختم ہونا، ختم کیا جانا یا ختم ہو جانا، واقع ہونا، ہونا، باعث ہونا، انجام دیا جانا، کیا جانا، وجود میں آنا، عمل میں آنا، پورا ہونا، پیدا ہونا، حاصل ہونا، کا متوقع نتیجہ نکلنا، حقیقت ہونا یا ہو جانا، دستیاب ہونا، موجود ہونا۔ ـــ علي: پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، کو جاری رکھنا، کرنا جاری رکھنا۔ تَمَّمَ و أَتَمَّ ہ: کو مکمل کرنا، ختم کرنا، ٹھیک کرنا، آخری صورت دینا، خاتمہ پر پہنچانا، میں اضافہ کرنا، کو بڑھانا، کو پوری طرح بھر دینا، کو بجالانا، ماننا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، کی تکمیل کرنا، کو کرنا، انجام دینا، پورا کرنا، حاصل کرنا۔ اِسْتَتَمَّ: مکمل ہونا، ختم ہونا۔

تَمَام: کمال، تکمیل، اختتام، تمام، سموچاپن، کلیت، کاملیت، اتمام، پورا، سب، سارا، تمام، جملہ کامل، مکمل، پورا کا پورا، سب کا سب، سموچا، بے کم و کاست، جوں کا توں، الگ، جدا، علیحدہ، الگ الگ، جدا جدا، علیحدہ علیحدہ، منفصل، آزاد، جداگانہ، مستقل۔ تَمامًا: مکمل طور پر، تمام کا تمام، سارا، یکسر، تمام تر، بالکل، پوری طرح، ایک حد تک، واقعی، ہاں بالکل ٹھیک۔ بدرٌ تمامٌ و قمرٌ تمامٌ: پورا چاند۔ في تمامِ الساعة السادسة: ٹھیک چھ بجے۔ بتمامِ معنى الكلمة: لفظ کے پورے مفہوم میں۔ بالتمام: مکمل طور پر، یکسر، تمام تر، بالکل، سارا، تمام کا تمام۔ أَتَمّ: مکمل تر، کامل تر۔ تَمِيمَة جمع تَمائِم: تعویذ۔ تَتِمَّة: اختتام، اتمام، تکمیل، تتمہ، اضافہ، ضمیمہ، وہ چیز جو کمی پوری کرنے کے لئے بڑھائی جائے۔ تتميم و إتمام: تکمیل، مکمل کرنا، مکمل یا کامل نمونہ، کمال، اتمام، تعمیل، کارروائی، بجا آوری، عملدرآمد، نفاذ، حصول، عمل پذیری، بروئے کار لانا۔

اِستتمام: اختتام، انتہاء، خاتمہ۔ تَامّ: مکمل، کامل، سب، سارا، تمام، صحیح سالم، نہایت، انتہائی، غائت، پوری قیمت کا، کھرا، خالص، کامل معیار، معیاری، پورا صرف، اصلی، حقیقی۔ تُمْباك: ایرانی تمباکو (خصوصاً حقہ کے لئے)۔ تَمْتَمَ: ہکلانا، منہ ہی منہ میں کچھ کہنا، بڑبڑانا۔ ـــ ب: کو سرگوشی کے انداز میں سنانا۔

تمر: ۱۔ تَمَرَ ـُـ تَمْرًا و تَمْرَۃً: کو کھجور کھلانا۔ تَمَرَ الرُّطَبُ: خشک کھجور ہونا۔ ـ تِ النخلۃ: درخت خرما کا پھلدار ہونا۔ اَتْمَرَ القومُ: لوگوں کا بہت کھجوروں والا ہونا۔ التَّمْرُ واحد تَمْرَۃ جمع تَمَرات و تُمُور و تُمْران (ن): خشک کھجور۔ التَّمْرُ الهِندِی (ن): املی، املی کا درخت۔ التّامِر: بہت کھجوروں والا، یا جس کے پاس کھجوریں ہوں۔ التَّمّار: کھجوریں بیچنے والا۔ المُتَمُّور: کھجور کا توشہ دیا ہوا۔

۲۔ تَمَّرَ ـُـ تَمْرًا و تَمَّرَ اللحمَ: گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر سکھانا۔ تَتَمَّرَ اللحمُ: چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کئے ہوئے گوشت کا خشک ہونا۔

۳۔ التّامُرِیّ و التّامُورِیّ: انسان۔ کہا جاتا ہے: ما بالدار تامُور او تُومُور: گھر میں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی شے۔

○ تَمَرجی و تمورجی و تیمارجی و تُومرجی جمع تمرجیا: تیماردار، ہسپتال کا خدمت گار، خدمت گذار۔ تمرجیہ جمع تمرجیات: خاتون تیماردار، نرس۔

تمز: تَمُوز و تَمُّوز: جولائی (مہینہ کا نام)۔

تمس: تِمْساح جمع تَماسِیح (ح): گھڑیال، مگر، نہنگ، مگرمچھ۔

○ تَمْغَۃ: شامپ، اشٹام، مہر، چھاپ۔ وَرَقُ تَمْغَۃ: اشٹام، شامپ لگا کاغذ۔

○ تُمَّن: چاول۔

تمہ: تَمِہَ ـَـ تَمَہًا و تَماہَۃً الطعامُ: کھانے کا بدبودار یا بدمزہ ہونا۔ صفت: تَمِہ۔

تن: ۱۔ تانَّ بینهما: دو کے درمیان مقابلہ کرنا، اندازہ کرنا۔ التِّنّ جمع اَتْنان: مثل، ہمسر، شخص۔

۲۔ اَتَنَّ المرضُ الصَّبیَّ: بیماری کا بچہ کو بڑھنے سے روک دینا۔ صفت مفعولی: تِنّ: (بچہ جسے بیماری نے بڑھنے سے روک دیا ہو)۔ ـ الرجل: دور ہونا۔

۳۔ التِّنِّین جمع تَنانِین (ح): مچھلی، اژدھا (فلک) آسمان میں ایک جگہ کا نام۔ التُّنّ (ح): مچھلی کی ایک مشہور جنس، جس کے پر خاردار ہوتے ہیں۔

۴۔ التَّنُوب واحد التَّنُوبَۃ (ن): ایک جنگلی درخت صنوبر کی قسم کا جو آرائش کے لئے باغوں میں اگایا جاتا ہے۔

۵۔ التَّنُّور جمع تَنانِیر: تندور۔ التَّنُّورَۃ و التَّنُّورِیَّۃ: دامن۔

○ تَنُّورَۃ: سکرٹ (skirt)۔

○ تنس: ٹینس (tennis)۔

تنأ: تَنَأَ ـَـ تُنُوءًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا، صفت: تانِئ جمع تُنّاء (مقیم، رہنے والا، پابند سکونت، رہائشی)۔

تنب: ۱۔ التَّنْبَک (ن): حقہ کا تمباکو (اسے تنباک بھی لکھا جاتا ہے)۔

۲۔ التِّنْبَل و التِّنْبال و التِّنْبُول و التِّنْبالَۃ جمع تَنابِیل و تَنابِلَۃ: پستہ قد، کند ذہن، سست۔ التَّنْبُل و التانْبُول (ن): پان (جو چونا کتھا، چھالیہ وغیرہ کے ساتھ چبایا جاتا ہے)۔

○ تَنْبَر جمع تَنابِر: شامپ۔ مُتَنْبَر: شامپ لگا ہوا۔

تنج: التَّنْجِسْتِین: ایک خاکستری دھات جو برقی قمقموں میں پتی کے طور پر اور فولاد بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ ٹنگسٹن (tungsten)۔

۳۔ التَّنْجَرَۃ: ہانڈی، دیگ (ترکی لفظ)

○ تَنْدَۃ: سائبان، شامیانہ، سقف بندی۔

تنخ: تَنَخَ ـَـ تُنُوخًا و تنخ و تَنَّخَ بالمکان: کسی جگہ قیام کرنا، رہنا، آباد ہونا۔ تَنِخَ ـَـ تَنَخًا: بدہضمی ہونا۔ اَتْنَخَ ہ: کو بدہضمی میں مبتلا کرنا۔

تنض: التَّنْضُب: دیکھو نضب۔

تنف: التَّنُوفَۃ و التَّنُوفِیَّۃ جمع تَنائِف: بے آب ریگستان، سنسان جگہ۔

تنک: التَّنَک (ك): ٹین۔ التَّنَکْجِی: ٹین ساز۔

○ تینس: ٹینس (tennis)

○ تنین: شاہ بلوط کی چھال، کستا (tannin)، کسنے کا تیزاب، شاہ بلوط کی چھال کا تیزاب۔

تہت: تَہْتَہَۃ: فضول باتوں میں مشغول ہونا۔ التَّہاتِہ: لغویات۔

○ تَہْتَہَ: ہکلانا، ہتلانا، رک رک کر بولنا۔

تہم: ۱۔ تَہِمَ ـَـ تَہَمًا اللحمُ: گوشت کا خراب ہونا۔ صفت: تَہِم۔ التَّہَمَۃ: بدبو۔

۲۔ اَتْہَمَ و تاہَمَ و تَتَہَّمَ: تہامہ میں آنا یا اترنا۔ تِہامَۃ: مکہ معظمہ، حجاز کے جنوبی علاقے بنسبت کے لئے۔ تِہامِیّ و تَہامٍ جمع تِہامِیُّون و تَہامُون

۳۔ اِتَّہَمَ و تُہَمَۃ: دیکھو وہم۔

○ تُہْمَۃ جمع تُہَم: الزام، شبہ، در پردہ الزام لگانا۔

تہن: تَہِنَ ـَـ تَہَنًا: سونا۔ صفت: تَہِن

تہا: تَہا ـُـ تَہْوًا: غافل ہونا۔ التَّہْواء: رات کا ایک حصہ۔ کہا جاتا ہے: مضی تهواء من اللیل: رات کا ایک حصہ گزر گیا۔

تو: التَّوّ جمع اَتْواء: اکیلا، ایک لڑی کی بٹی ہوئی رسی۔ کہا جاتا ہے: جاءَ تَوًّا: وہ قصد کرکے آیا کوئی چیز اس کو باز نہ رکھ سکی۔

○ تَوًّا: فوراً، بلاتاخیر، ابھی ابھی۔ لِلتَّوِّ فوراً: بلاتاخیر۔ لِتَوِّی، لِتَوِّها: میں نے ابھی، اس عورت نے ابھی یا فوراً، بلا تاخیر۔

○ تُوالِیت: پاخانہ، بیت الخلاء، سنگار۔

تاب: تابَ ـُـ تَوْبًا و تَوْبَۃً و تابَۃً و مَتابًا و تَتْوِبَۃً اِلی اللّٰہ: گناہ سے روگردانی کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، نادم و پشیمان ہونا، صفت: تائِب۔ ـ اللّٰہُ علیہ: اللہ تعالیٰ کا کسی کے گناہ معاف کرکے اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازنا۔ صفت: تَوّاب۔ اِسْتَتابَ ہ: کو توبہ کرنے کی ترغیب دینا۔

○ تابَ ـُـ تَوْبًا و تَوْبَۃً و مَتابًا: پچھتانا، پشیمان ہونا، توبہ کرنا، تائب ہونا، نادم ہونا، ـ عن: گناہ) سے روگردانی کرنا، (کسی چیز) کو ترک کرنا، سے دوسری حالت میں بدلنا، سے الگ ہو جانا، قطع تعلق کرنا۔ ـ علی: اللہ تعالیٰ کا کسی کو معاف کر دینا، بخش دینا، پر اپنا لطف و کرم بحال کرنا۔ تابَ اِلی اللّٰہ: پشیمان ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ تَوَّبَ ہ: کو پشیمانی یا توبہ پر اکسانا، کو نادم کرنا۔ اِسْتَتابَ ہ: سے پچھتانے کا تقاضا کرنا۔ تَوْبَۃ: پچھتاوا، پشیمانی، توبہ، ندامت، کفارہ۔ تَوّاب: کفارہ ادا کرنے والا، پشیمان، نادم، منفعل، تائب، نادم، شرمسار، متاسف؛ معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا، مہربان، رحیم و کریم (اللہ تعالیٰ)۔ تائِب: پشیمان، نادم، منفعل، تائب، شرمسار، متاسف۔

○ تُوبُوغرافیا: تذکرۃ البلاد، جغرافیائی مطالعہ، جغرافیائی خصوصیات (topography)۔

توت: ۱۔ التُّوت (ن): توت کا درخت، توت۔ تُوتُ العُلَّیق: جنگلی توت۔ تُوتُ الارض: شاہ بری (strawbery)۔

۲۔ التُّوتِیا (ك): ایک قسم کا پتھر جس سے سرمہ بنایا جاتا ہے۔ ـ المعدنیۃ: جست۔ التوتیا (ح) ایک خاردار سمندری سیپی جس کے اندر انڈے کی زردی کی مانند کوئی چیز ہوتی ہے۔

○ توت: شہتوت کا درخت، شہتوت۔ توتٌ ارضیٌّ و توتٌ افرنجی: شابری۔ توتٌ شَوْکِیٌّ و تُوتُ العُلَّیق: رس بھری (rospberry)۔

تُوت: قدیم مصری جنتری کا پہلا مہینہ۔

○ توتِیاء و توتِیاء و توتِیۃ: جست۔

تاج: تاجَ ـُـ تَوْجًا: تاج پہننا۔ تَوَّجَ ہ: کو تاج پہنانا۔ تَتَوَّجَ: تاج پہننا۔ التّاج جمع تِیجان: تاج۔ تاجُ العمود (ب): ستون کے بالائی حصہ کی میناکاری۔ تاجُ الجَبّار (فلك): ستارے و تارے۔ التائِج: تاج دار۔ التُّوَیْج (ن):

پھول کا اندرونی غلاف۔ التُوَيْجِيَّة او القُعاله: پھول کے اندرونی غلاف کا پتوں کا ہر قطعہ جس کی تعداد پھلدار نباتات میں پانچ ہوتی ہے اور بنیاد کے قریب دوسرے قطعہ سے جدا ہو جاتا ہے۔

○ تَوَّجَ ہ ب: کے بالائی حصہ کو سے ڈھکنا۔ تاج جمع تِیجان: تاج، لاٹ پادری کی ٹوپی۔ تاج العَمود: ستون کا بالائی حصہ یا مینا کاری۔ تُوَيج: چھوٹا تاج، مکٹ۔ تتویج: تاج پوشی، رسم تاج پوشی۔

○ تَوجو اور تَوجولَند: ٹوگو (Togo) (مغربی افریقہ کے ایک علاقہ کا نام)۔

تاح: تاحَ - توحًا لهُ الشیءُ: کے لئے تیار ہونا۔

تاخ: تاخَ - توخًا و توخات الاصبعُ فی الجسم الوارم او الرخو: انگلی کا سوجے ہوئے جسم یا نرم حصہ، بدن میں دھنس جانا۔

تود: التُودَری و التُودَرِی (ن): لمبے تنے کا پودا جس کی ڈنڈیوں میں سیاہ لمبے بیج ہوتے ہیں۔ یہ قصیصہ کے نام سے معروف ہے۔ (فارسی لفظ)۔

تار: ۱- تارَ - تَوْرًا الماءُ: پانی کا جاری ہونا۔ اَتارَ اِتارَةً ہ: کو بار بار لوٹانا۔ التَور: ایک قسم کا چھوٹا برتن، قاصد۔ التارہ: دیکھو تارَ۔

۲- التوراۃ و التَورِیَة جمع تَوْرات و تَوریات: موسی علیہ السلام کے پانچ اسفار، سارا عہد قدیم۔

○ تارَۃً: ایک بار، بعض اوقات، کبھی کبھی، کبھی کبھار۔ تارۃً۔ تارۃً و تارۃً۔ طوراً تارۃً اخری: کبھی ...... کبھی، کبھی کبھار، کبھی کبھار۔

○ تَوربید: تارپیڈو، آبدوز گولہ (torpedo)۔

○ تُورْبین جمع توربینات: چرخ ٹربائن turbine۔

○ تورتَة جمع تورتات: ٹکیہ شامی کباب، مربے والی پیسٹری۔

تاز: تازَ - تَوزًا الشیءُ: سخت ہونا۔

تاف: تافَ - تَوفًا البصرُ: نگاہ کا چندھیا جانا۔ التافةُ و التَوفَةُ و التُوفَةُ: عیب (کہا جاتا ہے: مافیہ توفةٌ: اس میں کوئی عیب نہیں) گناہ۔

تاق: تاقَ - تَوقًا و تُووقًا و توقانًا و تَوَقانًا و تِیاقَةً ہ و الیہ: کا شائق ہونا ــــ الی الغایة: منزل مقصود کی طرف جلدی جانا، جلدی کرنا صفت: تائق و تَوّاق ــ ت عینُهُ بالدموع: کی آنکھ کا آنسو بہانا۔

ــ منہ: سے ڈرنا۔ ــ بنفسہ: جان دینا۔ تَتَوَّقَ اِلی الشیءِ: کا آرزو مند ہونا، شائق ہونا۔

○ تاقَ - تَوقًا و تَوَقانًا الی: کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، کا آرزو مند ہونا، متمنی ہونا، کا مشتاق ہونا، کی آرزو میں مرنا، کی التجا کرنا، کے لئے سخت کوشش کرنا۔ تـوق و توقان: آرزو، تمنا، اشتیاق، التجا خواہش۔ تَوّاق: آرزومند، متمنی، مشتاق، شوقین، سرگرم۔ تائِق: بمعنی تَوّاق۔

○ تُوكَةٌ اَمامِيَّة: پیٹی کا بکلس۔

تال: تالَ یَتُولُ تَوْلًا: جادو کرنا، جادو کا علاج کرنا۔ التُولَة و التَوَلَة: جادو اور جادو جیسے کام۔ التُولَة و التَوَلَة جمع تولات: مصیبت۔

○ تُول: نقاب وغیرہ کے لئے نرم جالی کا کپڑا۔

توم: التُوم (ن): لہسن۔ التُومَة جمع تُوَم و تُوم: بالی، شتر مرغ کا انڈہ، موتی کے مانند چاندی کا ایک دانہ۔ المُتَوَّم: کان میں بالی پہنے ہوئے، مالا پہنے ہوئے۔

○ تومرجی: دیکھو تمرجی۔

تون: تَتاوَنَ و تَتاءَنَ الصیدَ: شکار پر کبھی دائیں اور کبھی بائیں سے حملہ کرنا۔

○ تُون و تُونَة: ایک قسم کی بڑی سمندری مچھلی جو بطور خوراک کھائی جاتی ہے۔ (tuna)

○ تُونج: کانسی۔

○ تُونس: تیونس (ایک ملک کا نام)۔ تُونُسِی جمع تونسیون و توانسة: تیونسی (صفت و اسم)۔

○ تُونِیَة جمع تَوانی: پادریوں اور کلیسا کے دنیاوی کاموں کے منتظمین کا سفید لمبا لباس۔

تاہ: ۱- تاہَ - توهًا: ہلاک ہونا، ضائع ہونا۔ تَوَّہَ و اَتاہَ ہ: کو ہلاک کرنا۔ التُوه و التُوه جمع اَتواه و جمع الجمع اتاویه: ہلاکت۔

۲- تاہَ - توهًا: تکبر کرنا۔

۳- تاہَ - توهًا: راستہ سے بھٹک جانا، پریشان عقل والا ہونا۔ التُوه من الفلوات: وہ بیابان جس میں انسان راستہ سے بھٹک جائے۔

توی: تَوِیَ - تَوًی المالُ: ہلاک ہونا، برباد ہونا صفت: تَوٍ و تاوٍ۔ اَتواہُ اللہُ اِتواءً: اللہ تعالی کا کسی کو ہلاک کرنا۔ التَوی: ضائع ہونا، نقصان۔ کہا جاتا ہے: لا توی علیہ: اسے کوئی نقصان و خسارہ نہیں۔ المَتواۃ جمع مَتاوٍ و مَتَوِیات: سبب ہلاکت، باعث نقصان۔ کہتے ہیں: الشُحُّ مَتواۃٌ: کنجوسی باعث نقصان و ہلاکت ہے۔

تیت: التِیاترو: تھیٹر (عربی میں مُمَثَّل لیکن مولدین کے نزدیک مَسرح)۔

○ تَیتَل جمع تَیاتِل: جنگلی بکرے کی ایک قسم۔

○ تیتانوس: عضلات کا سخت تشنج، اکڑ بائی، کزاز (tetanus)۔

تاح: ۱- تاحَ - تَیحًا فی مشیه: چلنے میں جھکنا۔

۲- تاحَ - تَیحًا لهُ: کے لئے مقرر ہونا، تیار ہونا۔

اَتاحَ اِتاحَةً ہ: کو تیار کرنا، مقدر کرنا۔ کہا جاتا ہے: اتاحَ اللہُ لہ الشرَّ: اللہ تعالی نے اس کے لئے شر مقدر کر دیا۔ المُتاح و المُتیاح: امر مقدر، فیصل شدہ امر۔

۳- التَیّاح و التَیحان و التَیَّحان و التَیِّحانُ المِتیَح: بے جا دخل دینے والا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ مِتیَحٌ: ہمیشہ بلا (آفت) میں مبتلا آدمی۔

تاح - تیحانٌ: (قسمت یا خدا کی طرف سے) کسی کے لئے مقرر، کیا جانا، ٹھہرایا جانا، فیصلہ کیا جانا، مقدر کیا جانا۔ ــ ل: کو دیا جانا، عطا کیا جانا۔ اَتاحَ ل ہ: کے لئے کسی بات کو مقدر کرنا، مقرر کرنا، ٹھہرانا، پہلے سے مقرر کرنا، کو کچھ عطا کرنا، بہم پہنچانا، کے لئے کی گنجائش نکالنا، کے لئے کو مقرر رکھنا، کو کچھ پیش کرنا۔

اُتیحَ ل: کے لئے مقدر کیا جانا، کو عطا کیا جانا، دیا جانا۔ اُتیحَ لہ التوفیق: وہ کامیاب ہوا، اس نے کامیابی کا منہ دیکھا۔ اُتیحَ لہ الفرصة: اسے موقعہ دیا گیا، اسے موقعہ ملا۔

تاخ: تاخَ - تَیخًا: کو لاٹھی یا کھجور کی چھڑی سے مارنا۔ المِتیَخَة: لاٹھی، کھجور کی چھڑی۔

تاد: التَید: نرمی۔ کہا جاتا ہے: تیدَك زیدًا: زید سے نرمی کر۔ یہ اسم فعل ہے اور ک خطاب کا ہے۔

تار: تارَ - تَیرانًا البحرُ: سمندر کا موجزن ہونا، جوش میں آنا۔ التَیّار: جوش زن سمندر کی لہر۔ التیارات الفکریة: فکری تحریکیں جو لہر کی طرح آگے بڑھتی ہوں۔ کہا جاتا ہے: قطع عرقًا تَیّارًا: اس نے تیز بہنے والی رگ کو کاٹا۔ فرسٌ تَیّار: موج کی طرح دوڑنے والا گھوڑا۔ التیار الکهربائی: برقی رو، بجلی کا کرنٹ۔ التیار المُتَّصِل: ڈائرکٹ کرنٹ۔ ــ المُتناوِب: الٹی رو، بدلوروالے سی (بجلی) یہ رو گھروں کو روشن کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔

۲- اَتارَہ: کو بار بار لوٹانا۔ تارۃً: دیکھو تار۔

۳- التِیر: تکبر و غرور۔ التَیّار: مغرور، متکبر۔

○ تَیّار جمع تَیّارات: بہاؤ، دھارا، رفتار، رو (کرنٹ)، سیلاب طغیانی، چڑھاؤ، آبشار، تحریک، رجحان، میلان، رخ، سمت، ٹھنڈی، ہوا کا بہاؤ، برقی رو۔ تیار مُباشِر و تیار مستمر: ڈائریکٹ کرنٹ۔ تیار مُتَناوِب و تیار مُتَغَیِّر: آلٹرنیٹنگ کرنٹ، الٹی رو، بدلورو۔ تیار متذبذب: باقاعدہ وقفوں میں طاقت یا سمت بدلنے والی رو، (oscillating current)۔ تیار نابض: مرتعش رو۔ تیار سریع التردد: ہائی فریکونسی کرنٹ۔ تیار بطیء التردد: لوفری کرنسی کرنٹ (low frequency current)۔ تیار عالی

الجَهْد: ہائی ٹینشن کرنٹ۔ تیار و اطیٔ الجَهْد: لو ٹینشن کرنٹ (low frequency current)۔ تَیّار ذَاتِي: سلف انڈیوسڈ کرنٹ (self induced current)۔

○ مَتار: ڈینمو، جنریٹر (dynamo- generator)۔

تاز: تارَ - تَیْزًا و تَایَزَہ ہ: پر غالب آنا۔ کہا جاتا ہے: تـاز السهمُ فـي الرمِيّة: تیر نے شکار میں حرکت کی۔ التَّیّاز: پستہ قد، سخت جوڑوں والا۔

○ تَیِّزَة: خالہ یا ممانی۔

تاس: ۱۔ تـاسَ يَتِيسُ الجدیُ: بکری کے بچے کا بکرا بن جانا۔ تَنایَسَتِ و اسْتَتْیَسَتِ العنزُ: بکری کا بکرے کی طرح ہو جانا۔ التَّیْس جمع تُیوس و اَتْیـاس و تِیَسَة: بکرا ہرن، جنگلی بکرا۔ لـحیة التیـــــس (ن) ایک قسم کی نبات۔ التَّیْسِیَّة والتَّیُّـوسِيَّة: بکرے جیسی طبیعت اور مشابہت۔ کہتے ہیں: فـي فـلان تیسیة او تیوسیة: فلاں میں بکرے جیسی طبیعت ہے۔ التَّیَّـاس: بکرے والا۔ الاَتْیَس: بکرے جیسا۔

۲۔ تَیَّسَ ہ عن کذا: کو سے باز رکھنا، روکنا۔ ــــ فـرسـه: گھوڑے کو سدھانا۔ تَـابَسَ ہ: کی مزاحمت کرنا۔ تَتَایَسَ الماءُ: پانی کی موجوں کا آپس میں ٹکرانا۔

○ تَیْس جمع اَتْیاس و تُیُوس: بکرا۔ اَتْیَس: بے وقوف، دیوانہ، مخبوط۔

تاع: ۱۔ تَاعَ - تَیْعًا و تَیَعَانًا القيءُ: قے کا آنا۔ اَتَـاعَ مـا اَكـلَهُ: کھائی ہوئی چیزوں کی قے کرنا۔ ــ الشيءَ: کو لوٹانا۔

۲۔ تَاعَ - تَیْعًا و تَیَعَانًا الماءُ: پانی کا بہہ کر سطح زمین پر پھیل جانا۔

۳۔ تَاعَ - تَیْعًا الطریقَ: راستہ طے کرنا۔ ــ السمنَ: روٹی کے ٹکڑے سے گھی اٹھانا۔

۴۔ تَاعَ - تَیْعًا و تَیَعَانًا الیه: کی طرف جلدی کرنا، کا مشتاق ہونا۔ تَتَیَّعَ في الأمر: کسی کام پر اصرار کرنا۔ کہا جاتا ہے: انه يَتَتَايَعُ في الامور: وہ اپنے آپ کو معاملات میں بے سوچے سمجھے ڈال دیتا ہے۔ ــ إلى الشرّ و تَتَایَعَ فیه: برائی کی طرف لپکنا اور تیزی کرنا۔ صفت: تَیِّع و تَیِّعان۔ ــ الریحُ بالورق: ہوا کا پتے اڑا لے جانا۔

○ تِیفُوس: پھول ماتا، ٹائفس (typhus)۔ الحُمّیٰ التِیفُودِیَة: میعادی بخار (typhoid fever)۔

تاك: ۱۔ تَاكَ - تَیُوكًا: احمق ہونا۔ صفت: تَائِك۔ اتَاكَ الشعرَ: بال اکھیڑنا۔

۲۔ تِیكَ: تاك کا مؤنث جمع اُولَـئِكَ: مونث متوسط کے لئے اسم اشارہ۔ تصغیر تَیّاك: اس پر ھائے تنبیہ داخل کر کے ھاتیک کہتے ہیں۔

تـال: التِیـل (ن): سن، پٹ سن، ریشہ دار پودا جس کے ریشوں سے رسے اور کپڑے تیار کئے جاتے ہیں۔ کتان۔

○ تَیَّلَ: تار دینا، تار کے ذریعے خبر بھیجنا، بحری تار دینا۔

○ تِیـلة: ریشہ، سوت، اون اور کپاس کا ریشہ، کپاس، اون۔

تام: ۱۔ تَامَ - تَیمًا و تَیَّمَ ہ الحُبُّ: محبت کا کسی کو غلام بنالینا، ذلیل کرنا۔ التَیْمُ: غلام (کہا جاتا ہے: هو تیمُ اللّٰه: وہ اللہ کا بندہ ہے)(مص) عشق کے سبب عقل کا فتور۔ التَّیْمـاء: بیابان، جس میں انسان بھٹک جائے۔ کہا جاتا ہے: ارض تیماء: گمراہ کن اور مہلک بے آب و گیاہ اور بے آباد بیابان۔ ایک مقام کا نام۔

۲۔ التَّیِّمَة و التِیمَة: وہ بکری جو گھر میں ہی چرائی اور دوہی جائے۔ وہ بکری جو بھوک کی حالت میں ذبح کی جائے۔

○ تام - تَیْمًا: محبت سے غلام بن جانا، گرویدہ ہو جانا۔ ــ ہ: محبت کے ذریعے کسی کو اندھا تابع بنانا۔ تَیَّمَ ہ: محبت کا کسی کو غلام بنانا، گرویدہ بنانا، اندھا تابع بنانا، پاگل کر دینا، لٹو کرنا، فریفتہ کرنا۔ مُتَیَّم: غلام، گرویدہ (محبت کی وجہ سے) لٹو، فریفتہ۔

○ تَیماء: (شمال مغربی عرب کا ایک نخلستان)۔

○ تیمارجي: دیکھو تمرجی۔

تـان: التِیـن: واحد تِینَة (ن): انجیر کا درخت، انجیر۔ تینُ البغال: بنگالی انجیر کا درخت۔ المَتانَة: انجیر کا باغ، انجیر بکثرت پیدا ہونے کی جگہ۔ ارض متـانة: انجیر کا باغ۔ التَّیَّـان: انجیر بیچنے والا، انجیر خشک کرنے والا۔

○ تین (اسم جنس واحد تینة) انجیر کا درخت۔ تِیـنٌ شوکي: انجیر۔

تیـو: ۱۔ التَّیُّوع (ن): ہر وہ سبزی جس کو کاٹنے پر سفید دودھ نکلے۔

۲۔ التِیو قَراطِیَة: دینی حکومت، ملائیت (theocracy)

تاہ: ۱۔ تَاهَ - تَیْهًا: تکبر کرنا۔ التَائِه و التَیْهان و التَیَّـاه و التِیَّهان: متکبر۔ التِیـه جمع اَتْیـاه و اَتاوِیه و اَتاوِهة: شیخی، لاف زنی، غرور۔

۲۔ تَاهَ - تَیْهًا و تَیَهانًا: سرگشتہ پھرنا، راستہ بھٹکنا، گمراہ ہونا۔ صفت: تَیّـاہ و تَیْهـان۔ تَیَّـهَ و اَتَاهَ ہ: کو گمراہ کرنا، ضائع کرنا۔ التِیْه جمع اَتْیـاہ و اَتاویه و اَتـاوِهة: گمراہی، چٹیل میدان جس میں چلنے والا بھٹک جائے۔ ارضٌ تَیهـاءُ و مَتِیهَةٌ و مَتْیَهَةٌ و تِیـــــهٌ: وہ زمین جس میں لوگ اکثر راستہ بھٹک جائیں۔

○ تَـاہَ - تیها: کھو جانا، غائب ہو جانا، ادھر ادھر پھرنا، مارا مارا پھرنا، راستہ سے بھٹک جانا، راستہ گم کر دینا (خیالات کا) بھٹکنا، ـــــ مـن: سے بچ نکلنا، کی یادداشت سے نکل جانا۔ ــ: ہلاک ہونا، تباہ ہو جانا، گم ہو جانا، حیران ہونا، حواس باختہ ہو جانا، ششدر ہونا، مغرور ہونا۔ ــ علی: سے تحکمانہ انداز اختیار کرنا، سے ڈینگ مارنا، بڑ ہانکنا، شیخی بگھارنا۔ تَیْـهُ على وجهه ابتسامة: اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں ہے۔ تَیَّـهَ ہ: کو گمراہ کرنا، راہ سے بھٹکانا، کی توجہ ہٹانا، کو گھبرا دینا، کا رخ موڑنا، کو بوکھلانا، پریشان کرنا، حیران کرنا، الجھاؤ میں ڈالنا۔ اَتْـــاہ: بـمـعـنـی تِیْه، تِیه: ریگستان، بیابان، بے سراغ صحرا، بھول بھلیاں، چکر، غرور، کبر، نخوت، تکبر، فخر و فخر و ناز، فخر و مباہات۔ تَیّـاہ: بھٹکنے والا، راستہ بھولا ہوا، بھٹکا ہوا، مارا مارا پھرنے والا، ادھر ادھر پھرنے والا، گم کردہ راہ، مغرور۔ تَیْهـان: بھٹکا ہوا، راستہ بھولا ہوا، مارا مارا پھرنے والا، ادھر ادھر پھرنے والا پریشان، گومگو کی حالت میں، حیران الجھاؤ میں پڑا ہوا، مغرور، متکبر۔ تَیْهـاء و مَتـاهَة: بے سراغ اجاڑ، سنسان علاقہ۔ مَتـاهَة: بھول بھلیاں۔ تـائِه: بھٹکا ہوا، مارا مارا پھرنے والا، منہ اٹھائے پھرنے والا، آوارہ، گمراہ، جہاں گرد، خیالات میں کھویا ہوا، مستغرق، سراسیمہ، بٹے ہوئے خیال والا، پراگندہ دماغ، محو، کھویا ہوا، ناامید، مایوس، لامحدود، لامتناہی، مغرور۔

تیولیب: گل لالہ، شقائق (tulip)۔

ث

ب تلفظ ثاء: حروف تہجی کا چوتھا اور حروف ابجد میں ۵۰۰ سے عبارت ہے۔

ثب ثئبَ ثأبًا و ثئِبَ و تثاءَبَ: جمائی لینا صفت: مَثْئُوب۔ الثّاب و الثُؤباء: جمائی۔ التثاؤب: جمائی۔ ضرب المثل ہے: اعدی من الثُؤَباءِ۔

۲۔ تثاءَبَ الأخبارَ: خبروں کی جستجو کرنا۔

ث ثانية (سیکنڈ) کا مخفف ہے۔ ثاء: حرف ث کا نام۔ ثُؤَباء: جمائی لینا، جمائی، تھکن، تھکاوٹ۔

ثاثا: ثاثا: پیاسا رکھنا، پانی پلانا۔ — النارَ: آگ بجھانا۔ — الغضبَ: غصہ ٹھنڈا کرنا۔ — ہ عن الأمر کو سے روکنا۔

ثاج: ثأجَ ـ ثأجاتِ الغنمُ: بکری کا ممیانا۔ الثُؤاج: بکری کی آواز۔

ثئد: ا۔ ثئِدَ ـ ثأدًا النبتُ: پودے کا تر وشاداب ہونا۔ — الرجلُ او المکانُ: ٹھنڈا ہونا۔ صفت: ثئِد و ثئِيد۔ الثأد و الثأد: تری، شبنم، نمناک مٹی، ٹھنڈ۔

۲۔ الثأد و الثأد: برا کام، نرم وشاداب نبات۔ الثأدة: موٹی عورت۔ الثأدة: موٹاپا۔ الثاداء: لونڈی۔

ثأر: ثأرَ ـ ثأرًا القتيلَ و بالقتيل: مقتول کے خون کا مطالبہ کرنا۔ قاتل کو قتل کرنا۔ صفت: ثائر۔ کہا جاتا ہے: ثأرَه بكذا: اس نے فلاں کے ذریعے خون کا بدلہ لیا۔ ثُئِرَ زيدٌ: زید سے خون کا بدلہ لیا گیا۔ أثأر و اثّأرَ منه: سے خون کا بدلہ لینا۔ إستثأرَ: خون کا بدلہ لینے کے لئے فریاد کرنا۔ الثأر و الثُؤرة جمع أثآر و آثار و ثائر: خون کا بدلہ، جرم کا بدلہ۔ کہتے ہیں: هو ثأرُك: وہ تمہارے رشتہ دار کا قاتل ہے۔ یا ثاراتِ فلان: اے فلاں کے قاتلو۔ الثأرُ المنيم: خون کا تسلی بخش بدلہ جس کے بعد طالب خون چین کی نیند سوئے۔ الثائر: انتقام لینے والا۔

ثأر ـ ثأرًا ہ/ب: کا بدلہ لینا، انتقام لینا، کے خون کا بدلہ لینا۔ — ہ/ا [illegible] سے ذاتی انتقام لینا۔ أثأرَ و إثّأرَ: کا بدلہ اترنا، اپنا بدلہ لینا، انتقام لینا۔ ثأر جمع ثارات و آثار: انتقام، بدلہ، خون کا بدلہ، ترکی بترکی جواب، انتقامی کارروائی۔ اخذ ثأرَه یا اخذ بالثأر: بدلہ لینا، انتقام لینا، ذاتی انتقام لینا۔ مُباراة الثأر: دوسرا میچ (کھلاڑیوں کا)۔

ثنط: ا۔ ثنِطَ ـ ثأطًا اللحمُ: گوشت کا خراب ہو جانا، بدبودار ہو جانا، سڑنا۔ الثأط جمع ثأط: بدبودار کیچڑ۔ اس سے یہ مثل ہے: ثأطةٌ مُدَّت بماء: یہ مثل اس وقت بیان کی جاتی ہے جب ایک خرابی کے ساتھ دوسری اسی جیسی خرابی نمودار ہو جائے۔

۲۔ ثُئِطَ الرجلُ: زکام ہو جانا صفت: مَثْؤُوط۔ الثُؤاة: زکام۔

۳۔ الثأطاء: بے وقوف (عورت)۔ کہا جاتا ہے: امرأة ثأطاء: لونڈی کی صفت کے طور پر بھی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ماهو بابن ثأطاء: وہ لونڈی کا بیٹا نہیں۔

ثال: ثُؤْلِلَ و تثألَّلَ جسدُه: جسم کا مسے والا ہونا۔ الثُؤلول جمع ثآليل: (طب): مسہ، گمڑی (ع ا): پستان کا سرا۔

ثُؤلول و ثُؤلولة جمع ثآليل: مسا، گمڑی، سخت دانہ۔

ثای: ا۔ ثأى ـ ثأيًا و اثأَى الشیءَ: کو پھاڑنا، چیرنا۔ ثئِيَ ـ ثأى الشیءُ: چھدنا۔

۲۔ ثَ ـ ثأيًا و اثأى ہ: کو کمزور کرنا، خراب کرنا، بگاڑنا۔ الثأى: فساد، خرابی کہا جاتا ہے: فلان يرأب الثأى: فلاں شخص خرابی کی اصلاح کرتا ہے۔

۳۔ اثأى في القوم: لوگوں میں قتل وزخمی کرنا، فساد کرنا۔ الثأى: زخم کے نشان، داغ۔

ثبّ: ثبَّ ـ ثبابًا: جم کر بیٹھنا۔ — الأمرُ: کام پورا ہونا۔

ثبت: ا۔ ثبُتَ ـ ثباتةً و ثبوتةً: مستقل مزاج ہونا، بہادر ہونا۔ الثُبات: بہادر شہسوار جس کا حملہ خطا نہ جاتا ہو۔

۲۔ ثبَتَ ـ ثباتًا و ثبوتًا في المكان: کسی جگہ ٹھہرنا، اقامت کرنا۔ — على الأمر: کسی کام پر مداومت کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا صفت: ثابتٌ و ثَبِيتٌ و ثَبْتٌ۔ ثبّتَ و أثبتَ ہ: کو ثابت کرنا، مستقل طور پر تعینات کرنا۔ کہا جاتا ہے: طعنه فأثبت فيه الرمحَ: اس نے اس کو نیزہ مار کر چھید کر دیا۔ ثابتٌ (ہ) نہ بدلنے والا عدد جیسے ۳، ۴۔ الثوابت من النجوم (واحد ثابتة) (فلك): ستارے (جو سیارے نہ ہوں)۔ الثُبات: ایسی بیماری جو بیمار کو حرکت کرنے نہ دے۔ الثِبات: برقع کے بند یا ڈوریاں۔ کجاوہ باندھنے کے تسمے۔ المُثْبَت (مفع) تسموں سے بندھا ہوا۔ (طب): صاحب فراش بیمار۔

۳۔ ثبَتَ ـ ثباتًا و ثبوتًا الامرُ عنده: کے نزدیک معاملہ ثابت ہونا، موکد ہونا۔ ثبّتَ و الحقَّ: حق کو دلائل سے موکد کرنا۔ أثبتَ و ثابتَ الامرَ: کو کما حقہ جاننا۔ إستثبتَ و تثبّتَ في الامر و الرأي: کسی کام یا رائے میں آہستگی سے کام لینا، مشورہ کرنا، خوب چھان بین کرنا۔ الثَبَت جمع أثبات: ثابت ہونا، حجت، دلیل۔ کہا جاتا ہے: لا احكمُ الا بثَبَتٍ: میں بغیر دلیل وحجت کے فیصلہ نہیں دیتا۔ الأثبات: قوم کے معتبر لوگ کہا جاتا ہے: فلانٌ ثَبَتٌ من الاثبات: مجاز جس طرح کہتے ہیں: فلانٌ حجّةٌ:

جب کوئی روایت میں ثقہ ہے۔ الاثبات: ایجاب، سلب اور نفی کی ضد۔

۴۔ أَثْبَتَ اسمَه فی الدیوان: رجسٹر میں نام لکھنا، درج کرنا۔

۵۔ ثَبَّتَ الولدَ: عیسائی بچے کی دینی تلقین وتوثیق کی رسم ادا کرنا۔ التثبیت: مذہبی رسم جس میں ایک شخص مسیحی کلیسہ میں کامل رکن کی حیثیت سے داخل کیا جاتا ہے۔

○ ثَبَتَ ـُ ثَباتًا و ثُبوتًا: جم کر کھڑا ہونا، جڑا یا جما ہوا ہونا، غیر تغیر پذیر ہونا، ساکن ہونا، غیر متحرک ہونا، غیر متزلزل ہونا، پکا ہونا، مضبوط ہونا، پائدار ہونا، مستقل مزاج ہونا، طاقتور، قوی اور توانا ہونا، سخت ہونا، زوردار یا پرزور ہونا، مستحکم ہونا، متوازن ہونا۔ ــــ لِ: کے مقابلہ میں چلنا، باقی رہنا، اپنے موقف پر قائم رہنا، کی بابت پائدار رہنا، کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کے مقابلہ میں جمے رہنا، کا مقابلہ کرنا، کو طاقت سے روکنا، کی مقاومت کرنا، کے مقابلہ میں آنا، کی اطاعت نہ کرنا، کا حکم نہ ماننا۔ ـ: ثابت ہونا (حقیقت کا) مسلم ہونا۔ ـ ب: کسی جگہ رہنا، ٹھہرنا۔ ــــ علی: کو برقرار رکھنا، چالو رکھنا، قائم رکھنا، پر جما رہنا، سے وابستہ رہنا، کسی معاہدہ پر قائم رہنا، جمے رہنا، پر اصرار کرنا۔ ثبت فی وَجْهِهِ: کے خلاف اپنی بات منوانا، اپنی بات کی طرف توجہ مبذول کرنا۔ ثَبَّتَ ہ: کو باندھنا، لگانا، جوڑنا، کو مضبوط کرنا، جمانا، مستحکم کرنا، کی تصدیق کرنا، کا ثبوت مہیا کرنا، کے لئے حقائق پیش کرنا، کی تائید کرنا، کو پائدار بنانا۔ ـ ہ: کو مستقل طور پر تعینات کرنا۔ ـ ہ: کو ثابت کرنا۔ ـ بان: دکھانا کہ، مظاہرہ کرنا کہ۔ ـ علی: (مدعا علیہ) کو مجرم ثابت کرنا، مجرم قرار دیا۔ ثَبَّتَ بصرہ بہ: پر اپنی نظریں گاڑنا، کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کو گھورنا۔ ثَبَّتَ قدمیہ: پاؤں رکھنے کی جگہ حاصل کرنا، پاؤں جمانا۔ اَثْبَتَ ہ: کو قائم کرنا، مستقل بنیادوں پر استوار کرنا، کو معین کرنا، کا تعین کرنا، کو دعوی سے کہنا، کا باضابطہ اعلان کرنا، کو وثوق سے، قانونی، معتبر یا مستند کے طور پر کہنا، کی تصدیق کرنا، کی تائید کرنا، کا ثبوت مہیا کرنے کے لئے حقائق پیش کرنا۔ ــــ ہ علی: کو پر ثابت کرنا۔ ـ ل ان: پر ثابت کرنا کہ۔ ـ ہ: کو دکھانا، کا مظاہرہ کرنا۔ ـ ہ: کے لئے مکمل شہادت مہیا کرنا، (گواہی) کی تصدیق کرنا، تصدیقی شہادت دینا۔ ـ ہ لِ: میں کو تسلیم کرنا، بجا سمجھنا، ماننا، قبول کرنا۔ ـ ہ ل: کا حق ماننا۔ ــــ علی: (مدعی علیہ) کو مجرم ثابت کرنا، مجرم قرار دینا۔ ــــ ہ فی: کا میں اندراج کرنا۔ اثبتہ فی الورق: کوئی چیز ضبط تحریر میں لانا۔ اَثْبَتَ الشخصَ: کی شناخت کرنا، نشاندہی کرنا، کو پہچاننا۔ اَثْبَتَ شخصیتہ: اپنی شناخت کرانا، اپنی شخصیت یا شناخت ثابت کرنا۔ تَثَبَّتَ فی/ھل: کی تصدیق کرنا، تصدیق کرنا کیا/آیا کی تحقیق کرنا، کا پتہ چلانا۔ تحقیق کرنا آیا، پتہ چلانا آیا۔ ـ فی: پر توجہ سے غور کرنا، میں احتیاط سے آگے بڑھنا۔ اِسْتَثْبَتَ: اپنے آپ کو ثابت قدم ظاہر کرنا۔ ــ ہ: کی تصدیق چاہنا، کے متعلق پر یقین ہونے کی کوشش کرنا، کے بارے میں تصدیق چاہنا، کے متعلق یقین کرنا، کو درست، ثابت شدہ یا سچا پانا، کو تصدیق شدہ دیکھنا، کو مستند یا معتبر سمجھنا۔ ثَبْت: مضبوط، جما ہوا، قائم، ثابت قدم، بہادر، پکا، پختہ۔ ثَبَت: قابل اعتماد، قابل یقین، لائق اعتماد، بھروسے کا۔ ثَبَت جمع اَثْبات: فہرست، اشاریہ، فرائض کی فہرست۔ ثَبات: پائداری، استقلال، ثابت قدمی، پختگی، استواری، استحکام، قیام، ایقان، یقین، یقینی امر، قابل اعتماد ہونا، حکمی ہونا، یقینی ہونا، مستقل مزاجی، عزم الجزم، اصرار، ضد، برداشت، بردباری، تحمل، استمرار، تسلسل، دوام، ہمیشگی۔ ـ علی: کو برقرار رکھنا، کا قبضہ میں رہنا، کی حمایت سے وابستگی۔ ثُبوت: قیام، استحکام، استقلال، ثابت قدمی، ایک حال میں رہنا، دردوام، ایک حالت کا ناقابل تغیر ہونا، یکساں، پختگی، استواری، استحکام، پائداری، دیرپائی، ایقان، یقین، یقینی امر، قابل اعتماد ہونا، یقینی ہونا۔ ثبوتُ الشھر: کسی قمری مہینہ کے شروع ہونے کی سرکاری تعیین۔ اَثْبَتُ: زیادہ قابل اعتماد، زیادہ مستحکم، زیادہ ثابت قدم وغیرہ۔ تثبیت: استحکام، تقویت، پائداری، پائدار بنانا، مضبوط کرنا، تاکید، تصدیق، ثبوت، ثبوت اصلیت۔ سِرُّ التثبیت: مذہبی رسم جس میں ایک شخص کو کلیسا میں کامل رکن کی حیثیت سے داخل کیا جاتا ہے۔ اِثبات: استحکام، ادعا، بیان بالیقین، دعوی، تصدیق، تائید، توثیق، اثباتی اقرار، حلفیہ اقرار، تحریری اقرار، حلفیہ بیان، شہادت، ثبوت اثبات، دلالت، دلیل، مظاہرہ، رجسٹری، داخلہ، اندراج، درج کرنا، تحریری شہادت کی فراہمی، تحقیق۔ شاھدُ اِثبات: استغاثہ کا گواہ۔ عبء الاثبات: بارِ ثبوت۔ اِثباتی: تصدیقی، اقراری، اثباتی، معاون، تائیدی، قطعی، صریحی، ایجابی، مثبت۔ تَثَبُّت: تصدیق، معائنہ، جائزہ، تشخیص، تفتیش، تحقیق، جانچ پڑتال، امتحان محتاط اور چوکس طریقہ کار یا اسلوب کار، یا کارروائی و عملدرآمد، نگہبانی، چوکسی، خبرداری، عیسائی ولی کی تدفین۔ ثابِت: پکا، مضبوط، جڑا ہوا، قائم، ساکن، ٹھہرا ہوا، مقیم، غیر متحرک، بے حرکت، منجمد، مستقل مزاج، غیر متزلزل، مستحکم، جما ہوا، ثابت قدم، ناقابل تبدیلی، اٹل، ایک حال پر، مستقل، سدا ایک حالت پر رہنے والا، راسخ، دیرپا، مستقل، استمراری، دائمی، برداشت کرنیوالا، تصدیق شدہ، ثابت شدہ۔ ثابتُ الجاشِ: بے خوف، نڈر، سرگرم، پرجوش، مخلص، پکا، پختہ، بھروسہ کا، ثابت قدم، نہ ڈرا ہوا ثابتُ العزمِ: مضبوطی سے عزم کئے ہوئے، ثابت قدم، مصمم۔ املاکٌ ثابتةٌ و اموالٌ ثابتةٌ: غیر منقولہ جائیداد۔ ثابتة جمع ثَوابت: ستارہ۔ مثبوت: قائم، مضبوط، تصدیق شدہ، یقینی، قطعی، صریحی، ثابت شدہ۔

ثبج: ۱۔ ثَبَجَ ـُ ثَبْجًا و ثَبَّجَ الکلامَ: ٹھیک کلام نہ کرنا، بے ترتیب بولنا۔ ـ الخطَّ: بے ترتیب لکھنا، تحریر میں غیر معروف طریقہ برتنا۔

۲۔ ثَبَجَ ـِ ثَبْجًا و ثُبوجًا: پاؤں کی انگلیوں پر بیٹھنا۔

۳۔ ثَبَجَ و تَثَبَّجَ الراعی بالعصا: گڈریے کا لاٹھی کو پیٹھ پر رکھ کر اس کے پیچھے اپنے ہاتھ رکھنا۔ اِثْبَأَجَّ الرجلُ: موٹا اور ڈھیلا ہونا۔ ـ السقاء: مشک کا بھر جانا۔ الثَّبَج جمع اَثْباج و ثُبوج من کل شیء: ہر چیز کا درمیانی حصہ، بڑا حصہ (کہا جاتا ہے: یرکبون ثَبَج ھذا البحر: وہ اس سمندر کے بڑے حصے پر سوار ہوتے ہیں) اونچا حصہ (کہا جاتا ہے: تَسَنَّمَتْ الحُمُرُ اثباجَ الآکام: گدھے ٹیلوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے)۔ کندھے اور پیٹھ کا درمیانی حصہ۔ الأَثْبَج: چوڑی پیٹھ والا، کبڑی پیٹھ والا۔ المُثْبَجُّ من الرجال: بے ڈول لمبے قد والا آدمی۔

ثبر: ۱۔ ثَبَرَ ـُ ثَبْرًا ہ: پر لعنت کرنا، کو دھتکارنا، ناکام کرنا۔ ــ عن کذا: سے منع کرنا، روکنا۔ ــ و ثَبَّرَ فلانا بالشیء: کو پر روک دینا۔ المُثَبَّر مجروم۔

۲۔ ثَبَرَ ـُ ثُبورًا: ہلاک ہونا۔ ـ ہ: کو ہلاک کرنا۔ ثَبَرَ اللهُ فلانًا: اللہ تعالیٰ کا فلاں کو ہلاک کر دینا۔ الثُّبور: ہلاکت، مصیبت، ہلاک کرنا، غم۔ کہا جاتا ہے: دعا بالویل و الثبور: واویلاہ و اثبوراہ: کہنا (یہ ہلاک ہونے والا یا وہ شخص جسے سخت مصیبت آ پڑی ہو کہتا ہے)۔

۳۔ ثَبِرَت ـَ ثَبَرًا القرحةُ: زخم کا کھل کر بہنا۔

۴۔ ثابَرَ ثِبارًا و مُثابَرَةً علی الأمر: کسی کام پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا۔ صفت: مُثابِر۔

۵۔ تَثابَروا: ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ الثَّبْرَة: نرم زمین، زمین یا پہاڑ میں گڑھا۔ المَثْبِر: مذبح، بوچڑ

خانہ، عورت کے بچہ جننے یا اونٹنی کے بچہ دینے کی جگہ۔ المُثْبَرُ: ممدود۔

ثَبَرَ ـُ ثُبُورًا ہ: کو برباد کرنا، تباہ کرنا۔ ـــ: ہلاک ہونا۔ ثَابَرَ علی: جوش و استقلال سے کسی کام پر اپنے خیالات اور طاقت کو مرکوز کرنا، پر ثابت قدم رہنا، پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا۔ ثُبور: تباہی، بربادی۔ نادی (یادعا) بالویل و الثُبور: گریہ وزاری کرنا، پھوٹ پھوٹ کر اونچی آواز سے ماتم کرنا، سخت افسوس کرنا۔ مُثابرہ: استقلال، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، (پر) جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، صبر، برداشت، حوصلہ، سرگرمی، تندہی، جاں فشانی، محنت، مشقت۔

ثبط: ثَبَطَ ـُ ثَبْطًا و ثَبَّطَ ہ عن الأمر: کو کسی امر سے باز رکھنا۔ ـــ ہ علی الامر: کو کسی کام پر موقوف رکھنا۔ أَثْبَطَہُ المرضُ: بیماری کا کسی کو چمٹ جانا اور نہ چھوڑنا۔ تَثَبَّطَ عن الأمر: کسی کام میں دیر لگانا یا اس سے رکنا۔ الثَبِط جمع أَثْبَاط و ثِبَاط مونث ثَبْطَاء: کمزور، بے وقوف۔

ثَبَطَ ـُ ثَبْطًا ہ عن و ثَبَّطَ ہ عن: کو سے روکنا، منع کرنا، باز رکھنا، روکے رکھنا۔ ـــ ہ/ ھ: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، میں رکاوٹ ہونا، کو آہستہ کرنا، میں تاخیر کرنا، کو ناکام کرنا، کو ناکام بنانا، بے اثر کرنا۔

ثبق: ثَبَقَ ـِ ثَبْقًا و ثَبَاقًا النهرُ: دریا کا پانی بڑھ جانا اور تیز بہنا۔ ـــ ت العینُ: آنکھ کا تیزی سے آنسو بہانا۔

ثبل: الثُبل و الثَبَل: برتن وغیرہ میں نیچے باقی رہنے والی چیز۔

ثبن: ثَبَنَ ـِ ثَبْنًا و ثِبَانًا الثوبَ: کپڑے کی ایک طرف کو موڑ کر اس کو سینا۔ ـــ الشیءَ: پر پاجامہ کے نیفہ کو آگے سے لپیٹنا۔ ـــ و تَثَبَّنَ الشیءَ: کو جھولی میں رکھ کر لیجانا، پائجامہ کے نیفہ میں رکھ لینا۔ الثِبَان: چادر کا موڑا ہوا کنارہ۔ الثُبْنَة جمع ثُبَن و الثبان جمع ثُبُن: جھولی، دامن کی گودی جو کسی چیز کے لئے پھیلائی جائے۔ المَثْبَنَة جمع مَثَابِن: وہ تھیلی جس میں عورت آئینہ وغیرہ رکھتی ہے۔

ثُبْنَة جمع ثُبَن: جھولی، دامن، پلو، آنچل، گود، آغوش۔ ثِبان بمعنی ثُبْنَة۔

ثبی: ا۔ ثَبَی ـِ ثَبْیًا الشیءَ: کو جمع کرنا۔ ثَبَّیَ الشیءَ: کو جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے: ثَبَّیَ اللّٰہُ لَہُ النِعَم: اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے نعمتوں کے تودے لگا دیئے۔ الثُبَة جمع ثُبات و ثُبُوت: جماعت، حوض کا درمیانی حصہ، سواروں کا گروہ۔ الأُثْبِیَّة جمع أثَابِی: بڑی جماعت۔

۲۔ ثَبَّی الشیءَ: کی تعظیم کرنا۔ ـــ علی فلان: کی تعریف کرنا۔ الثَبِّی: لوگوں کی بہت تعریف کرنے والا۔

۳۔ ثَبَّی الشیءَ: کی اصلاح کرنا، کو تمام کرنا۔ ـــ علی الأمر: کسی کام میں لگا تار لگا رہنا۔

ثج: ا۔ ثَجَّ ـُ ثُجُوجًا الماءُ: پانی کا بہنا۔ ـــ ثَجًّا الماءَ: پانی کو بہانا۔ اِنْثَجَّ الماءُ: پانی کا بہنا۔ الثَجَّاجُ من الأمطار: بہت برسنے والی بارش۔ الثُجُوج من العیون: بہت پانی والا چشمہ۔ الثَجِیج: زبردست سیلاب۔ المِثَجّ: خوش بیان لکچرار، مقرر۔

۲۔ ثَجْثَجَ الماءَ: پانی کو بہانا۔ تَثَجْثَجَ الماءُ: پانی کا بہہ پڑنا، جاری ہو جانا۔

ثَجَّ ـُ ثُجُوجًا: افراط سے بہنا۔ ثَجَّاج: افراط سے بہنے والا، دھار بن کر بہنے والا۔

ثجر: ثَجَرَ ـُ ثَجْرًا التمرَ: کھجور کو بسر کی کھلی کے ساتھ ملانا۔ ثَجَّرَہ: کو وسیع کرنا، چوڑا کرنا۔ الثَجْر و الثَجَر و الأَثْجَر من الورق و نحوہ: موٹا اور چوڑا پتا وغیرہ۔ الثُجْرَة جمع ثُجَر: ہنسلی کے درمیانی گڑھے کا اردگرد۔ (کہا جاتا ہے: طعنوھم فی الثُغَر والثُجَر: انہوں نے ان کے ہنسلیوں کے درمیانی گڑھوں کے ارد گرد نیزے چبھوئے)۔ درمیان، وسط۔ کہا جاتا ہے: اقاموا فی ثُجْرَة الوادی: انہوں نے وادی کے وسط میں قیام کیا۔ ثَجِیرُ البُسر: گدر کھجوروں کی تلچھٹ۔

ثجل: ثَجِلَ ـَ ثَجَلًا: بڑے پیٹ والا ہونا صفت: أَثْجَل۔ الثَجْلاء جمع ثُجْل من النساء: بڑی عورت، بھاری بھرکم عورت۔ ـــ من المزاد: کشادہ توشہ دان۔

ثجم: ثَجَمَ ـُ ثَجْمًا تِ السماءُ: آسمان کا جلد بارش برسانا، بارش کا جلدی برسنا۔ ـــ ہ عنہ: کو سے جلد پھیر دینا۔ أَثْجَمَتِ السماءُ: آسمان کا جلد بارش برسانا، بارش کا جلدی برسنا۔

ثجا: ثَجَا ـُ ثُجُوًّا: خاموش رہنا۔ أَثْجَی ہ: کو خاموش کرنا۔

ثخن: ثَخُنَ ـُ ثِخَنًا و ثَخَانَةً و ثُخُونَةً: موٹا ہونا، سخت ہونا صفت ثَخِین جمع ثُخَناء۔ أَثْخَنَ فِی الأمر: میں مبالغہ کرنا۔ ـــ فی العدوّ: دشمن کے قتل میں زیادتی کرنا۔ ـــ فی الارض: خونریزی میں حد سے آگے بڑھنا۔ ـــ تہ الجراحُ: کو زخم کا کمزور و نڈھال کرنا۔ اِثَّخَنَ: کمزور و سست ہونا۔ اِسْتَثْخَنَ منہ المرضُ او النومُ: پر بیماری یا نیند کا غالب آنا۔

ثَخُنَ ـُ ثِخَنًا و ثَخَانَةً و ثُخُونَةً: موٹا ہونا، سخت ہونا، ٹھوس ہونا، کسا ہوا ہونا۔ أَثْخَنَ ہ: کو کمزور کرنا، عاجز کر دینا، تھکا دینا۔ أَثْخَنَہُ ضربًا: کو سختی سے پیٹنا، کی خوب مرمت کرنا، پٹائی کرنا، کو سخت ضربیں لگانا۔ أَثْخَنَ فی العدو: دشمن کا قتل عام کرنا۔ أَثْخَنَہُ بالجراح: کو زخمی کر کے کمزور کر دینا۔ ثِخَن و ثَخَانَة و ثُخُونَة: کثافت، فربہی، ٹھوس پن، گنجانی، گاڑھا پن، گھنا پن، ضخامت، استقامت، متانت۔ ثَخِین جمع ثُخَناء: گاڑھا، کثیف، گنجان، گھنا، موٹا، بھرا ہوا، ٹھوس۔

ثدغ: ثَدَغَ ـَ ثَدْغًا رأسَہُ: کے سر کو کچلنا، پھوڑنا۔ اِنْثَدَغَ: کچلا جانا، پھوڑا جانا۔

ثدق: ثَدَقَ ـُ ثَدْقًا المطرُ: بارش کا پڑنا۔ ـــ السحابُ: بادل کا بارش برسانا صفت: ثَادِق۔ اِنْثَدَقَ الناسُ علیہ: پر لوگوں کا حملہ کرنا۔

ثدم: ثَدَّمَ الابریقَ: لوٹے پر صافی ڈالنا۔ الثِدام: صافی۔ الثَدْم مونث ثَدْمَة: کلام و حجت میں عاجز، احمق۔

ثدن: ثَدِنَ ـَ ثَدَنًا اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا، بو دینا۔ ـــ و ثُدِّنَ الرجلُ: پر گوشت اور بھاری بدن والا ہونا، صفت: ثَدِن و مُثَدَّن۔ أَثْدَنَ الشیءَ: کو چھوٹا کرنا۔

ثدا: ثَدَا ـُ ثُدُوًّا ہ: کو تر کرنا۔ ثَدِیَ ـَ ثَدًی: تر ہونا۔ ثَدَّاہ تَثْدِیَةً: کو کھلانا۔ الثَدْی و الثَدَی جمع ثُدِیّ و ثِدِیّ و أَثْدٍ (ع ا): پستان (مذکر و مونث)۔ الثَدْیَاء: بڑے پستان والی عورت۔

ثر: ثَرَّ ـِ ثَرًّا و ثُرُورًا و ثُرُورَةً و ثَرَارَةً الشیءُ: کشادہ ہونا۔ ـــ تِ السحابةُ او العینُ: بادل یا آنکھ کا بہت پانی والا ہونا صفت: ثَرَّة و ثَرور (مونث)۔ ثَرّ جمع ثِرار (مذکر)۔ ـــ ثَرًّا تِ السحابةُ ماءَھا: بادل کا پانی برسانا۔ الثَرَّارَة من العیون: بہت پانی والا چشمہ۔ الثَرّ: بہت بولنے والا، باتونی۔ کہا جاتا ہے: مَطَرٌ ثَرٌّ: موسلا دھار بارش۔ فرسٌ ثَرٌّ: لمبے قدم رکھنے والا گھوڑا۔ شاةٌ ثَرَّة: بہت دودھ دینے والی بکری۔ الثَارَّة: بہت بولنے والی، باتونی عورت۔

۲۔ ثَرَّ ـُ ثَرًّا ہ: کو متفرق کرنا۔ ثَرَّرَ المکانَ: جگہ کو تر کرنا۔

۳۔ ثَرْثَرَ ثَرْثَرَةً الشیءَ: کو بکھیرنا، متفرق کرنا۔ ـــ الکلامَ: بکواس کرنا، فضول بک بک کرنا۔ صفت: ثَرْثار مونث: ثَرْثَارَة۔ الثَرْثَارَة و الثُرْثُورَة من عیون الماء: بہت پانی والا چشمہ۔ الثَرْثَرَة: بک

بک، بکواس، ہرزہ سرائی، یاوہ گوئی، طفلانہ گفتگو۔

○ ثَرٌّ: بہت پانی والا۔ ثَرَّة من الدمع: آنسوؤں سے تر آنکھ، دھندلی آنکھ۔

○ ثَرثَرَ ثَرثَرَةً: بک بک کرنا، بکواس کرنا، ہرزہ سرائی کرنا، یاوہ گوئی کرنا، بچوں کی سی باتیں کرنا۔ ثَرثار: بکواس کرنے والا وغیرہ۔

ثرب: ا۔ ثَرَبَ ثَربًا و أَثرَبَ ہ: کو ملامت کرنا، کے فعل کو برا بتانا۔ ثَرَّبَ ہ و علیہ: کو ملامت کرنا، کے فعل کو برا بتانا۔ المُثَرِّب: گڑبڑ کرنے والا، فسادی، شرپسند۔

۲۔ أَثرَبَ الكبشُ: مینڈھے کی اوجھڑی اور انتڑیوں پر چربی کا زیادہ ہونا۔ صفت: أَثرَب مؤنث ثَرباء۔ الثَّرب جمع ثُرُوب و أَثرُب و جمع الجمع أثارِب: اوجھڑی اور آنتوں کے اوپر کی چربی۔

○ ثَرَّبَ تَثريبًا و ثَرَّبَ ہ/علی: کو ملامت کرنا، قصور وار قرار دینا، کو الزام دینا، کی عیب جوئی کرنا، مذمت کرنا۔ تَثريب: عیب جوئی، الزام تراشی، ڈانٹ، اظہار ناراضگی، ملامت، الزام، زجر و توبیخ، سرزنش، جھاڑ چھپاڑ، ڈانٹ ڈپٹ، لعن طعن۔

ثرد: ا۔ ثَرَدَ ثَردًا و أَثرَدَ و اِثَّرَدَ: ثرید بنانا۔ — الخُبزَ: روٹی کو توڑ کر شوربے میں بھگونا: ایسی روٹی جو شوربے میں توڑ کر بھگوئی گئی ہو: ثَرِید اور مَثرُود کہلاتی ہے۔ الثَّرِيد و الثَّرِيدَة ج ثَرائِد و ثُرُود (ط): شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی۔ الثَّرد: ہلکی بارش۔ المَثرُودة و المُثَرَّدة من الاراضی: وہ زمین جس پر ہلکی سی بارش ہوئی ہو۔

۲۔ ثَرَدَ الثوبَ: کپڑے کو رنگ میں بھگونا۔ ثُرِدَ و ثُرِّدَ من المعركة: میدان کارزار سے زخمی حالت میں اٹھایا جانا۔

۳۔ الثَّرَد: ہونٹوں کی پھٹن۔ الأَثرَد: پھٹے ہونٹوں والا۔

○ مِثرَد: پیالہ، کاسہ۔

ثرع: ا۔ ثَرِعَ ثَرَعًا الرجلُ: طفیلی بننا، بن بلائے دعوت میں جانا۔

۲۔ الثُّرعُلَة: مرغ کی گردن کے پر۔

ثرغ: الثُّرغُل (ح): لومڑی، روباہ۔ الثُّرغُول (ن): ایک قسم کی گھاس۔

ثرم: ثَرَمَ ثَرمًا و أَثرَمَ ہ: کے دانت کو جڑ سے توڑنا۔ ثُرِمَ ثَرمًا و اِنثَرَمَ: دانت کا جڑ سے ٹوٹنا۔ صفت: الأَثرَم مؤنث ثَرماء جمع ثُرم۔ الثُّرمان (ن): ایک درخت جس کے پتے نہیں ہوتے اور اس میں بہت پانی ہوتا ہے۔ الأَثرَمان: رات و دن، زمانہ، موت۔

○ ثَرَّمَ تَثرِيمًا ہ: کو مار کر دانت نکال دینا۔ ثَرِمَ ثَرَمًا: دو دانتوں کے درمیان خلا والا ہونا۔

ثرا: ثَرَا ثَراءً القومُ: لوگوں کا زیادہ ہونا۔ — اللهُ القومَ: اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو زیادہ کرنا۔ — ہ: سے زیادہ مالدار ہونا۔ — و ثَرِيَ ثَرًى الرجلُ: بہت مال والا ہونا۔ أَثرَى إِثراءً: بہت مالدار ہونا۔ صفت: ثَرِيٌّ و مُثرٍ و أَثرَى مؤنث: ثَرواء۔ الثَّراء و الثَّروَة: مال یا لوگوں کی کثرت۔ الثَّرِيّ و الثَّرِي من المال: بہت مال۔ — من الناس: دولتمند، بہت مالدار۔ — من الرياح: بہت ہوا۔ الأَثرَى مؤنث ثَرواء: بہت مال دار۔ الثَّروان مؤنث ثَروَى: بہت مالدار۔ الثُّرَيّا (فلک) پروین، ستاروں کا جھمکا، برج ثور کے گردن کے سات ستارے، جھاڑ۔

ثری: ا۔ ثَرِيَ ثَرًى: دیکھو: ثَرَا۔

۲۔ ثَرِيَ ثَرًى و أَثرَى التراب: مٹی کا خشک ہونے کے بعد تر و نرم ہونا۔ صفت: ثَرٍ و أَثرَى مؤنث ثَرِيَّة و ثَرياء۔ ثَرَّى ہ: کو تر کرنا۔ — المكانَ: جگہ پر چھڑکاؤ کرنا۔ أَثرَتِ الارضُ: زمین کا نم ناک ہونا۔ — المطرُ: بارش کا زمین کو نم ناک کرنا۔ الثَّرَى جمع أَثراء: تری، نم ناکی۔ — و الثَّراء جمع أَثراء: نم ناک مٹی۔ (کہا جاتا ہے: يبس الثرى بينهم: ان کے درمیان مٹی خشک ہو گئی۔ مراد وہ دوست سے دشمن ہو گئے) خیر۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ قريب الثرى: فلاں شخص خیر سے قریب ہے۔

○ ثَرِيَ ثَروًا و ثُرِيًّا: مالدار ہو جانا۔ أَثرَى ب/من: کے ذریعے امیر و دولتمند ہونا یا ہو جانا۔ — ہ: کو امیر بنا دینا، مالا مال کرنا۔ ثَرًى: گیلی، تر، نم یا مرطوب مٹی۔ مٹی، زمین۔ اين الثرى من الثريا؟: کہاں زمین کہاں ثریا؟ (غیر متناسب قیمت کی چیزوں کے بالعموم ذکر کے لئے)۔ طَيَّبَ اللهُ ثراہ: کو اللہ تعالیٰ امن و سکون میں رکھے۔ ثَرِي جمع أَثرِياء: دولتمند، امیر۔ ثَرِيُّ الحروب: جنگ سے نفع اندوز۔ ثَرِيّات: باغات، کھیت۔ ثَروَة و ثَراء: دولت، فراوانی، کثرت، وفور۔ اهلُ الثروة: امیر لوگ، دولت مند لوگ۔ ثروة قومية: قومی دولت۔ ثَروَة مائِيَة: پانی کی بہتات، کسی علاقہ میں پانی کی وافر فراہمی۔

ثریا: سات سہیلیوں کا جھمکا، ثریا، پروین۔ ثریا و ثریة جمع ثُرَيّات: شیشے کا جھاڑ، چہل چراغ، فانوس، جل چراغ۔ مُثرٍ: دولتمند، امیر۔

ثعب: ثَعَبَ ثَعبًا عليهم الغارةَ: پر لوٹ ڈالنا، حملہ کرنا، حملہ آور ہونا۔ — الماءَ: پانی کو جاری کرنا۔

اِنثَعَبَ الماءُ: پانی کا نالی یا پرنالہ میں جاری ہونا۔

الثَّعب جمع ثُعبان: وادی میں پانی کے بہاؤ کی جگہ۔

الثَّعب و الثَّعَب و الأُثعُوب من الماء او الدماء: بہتا پانی یا خون۔ المَثعَب: نالی یا پرنالہ۔

الثُّعبان جمع ثَعابِين (ح): اژدھا، سانپ (مذکر و مونث)۔

○ ثُعبان الماء جمع ثعابين الماء: بام مچھلی۔ ثُعبانی: سانپ کی طرح کا، سانپ جیسا، سانپ کی شکل کا، سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا، بام مچھلی جیسا۔ مَثعَب جمع مَثاعِب: نالی۔

ثعط: ثَعِطَ ثَعَطًا اللحمُ او الماءُ: گوشت یا پانی کا بدبودار ہونا۔

ثعل: ا۔ ثَعِلَ ثَعَلًا تِ اسنانُہ: کے دانتوں کا ایک دوسرے پر نکلنا۔ صفت: أَثعَل مؤنث ثَعلاء جمع ثُعل۔ الثُّعل: دانتوں کے پیچھے ایک زائد دانت، ایک دانت کا دوسرے دانت کے نیچے ہونا۔ الثُّعل و الثَّعل: اونٹ، بکری یا گائے کے تھن میں بالکی زیادتی۔

۲۔ أَثعَلَ الامرُ: کام کا سخت و دشوار ہونا، جس کو سرانجام دینے کا راستہ نہ سوجھے۔ — الضيوف: مہمانوں کا بہت یا زیادہ ہونا۔

۳۔ الثُّعل: لنیمر (ح): مشک کے بدبودار ہونے پر اس میں پیدا ہونے والا کیڑا۔ ثُعالِ و ثُعالَة: لومڑی (غیر منصرف)۔ ارضٌ مُثعَلَة: بکثرت لومڑیوں کے پائے جانے کی زمین۔

○ ثعالة: لومڑی۔

ثعلب: ا۔ ثَعلَبَ و تَثَعلَبَ: لومڑیوں کی طرح مکار ہونا۔ الثَّعلب جمع ثَعالِب و ثَعال۔ مادہ ثَعلَبَة نر ثُعلُبان۔ جب کہ ثعلب کا لفظ مذکر و مونث دونوں پر بولا جاتا ہے (ح) لومڑی، لومڑ۔ جو مکر و فریب میں ضرب المثل ہیں۔ لومڑی کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے بال ہر سال گر جاتے ہیں۔ لہٰذا داء الثعلب اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں بال جھڑ جائیں۔ کہا جاتا ہے: مكانٌ مُثعلِبٌ و ارض مُثعلِبَة: وہ جگہ یا زمین جہاں لومڑیاں بکثرت پائی جائیں۔

۲۔ الثَّعلَب: نیزے کا وہ سرا جو پھل میں لگایا جاتا ہے۔ عِنَبُ الثَّعلَب (ن): مکو۔ الثَّعلَبَة: دم کی ہڈی، سرین۔

○ ثَعلَبِي: لومڑی کی طرح، چالباز، مکار، روباہ صفت، حیلہ ساز، لومڑی کے رنگ کا، بھورا۔ ثَعلَبَة: مادہ لومڑی، جلدی مرض، داد، کھجلی، کھاج۔

ثغ: ثغثغ ثغثغة کلامهُ: اپنے کلام کو مخلوط کرنا، گفتگو کو خلط ملط کرنا۔ صفت: ثغثغ و ثغثاغ کہا جاتا ہے: فلان يثغثغ في كلامه: فلاں شخص گڑبڑ گفتگو کرتا ہے، بے ترتیب گفتگو کرتا ہے۔

ثغب: ۱۔ ثغَبَ ـ ثغبًا الشاة: بکری کو ذبح کرنا۔ ـ ہ بالرمح: کو نیزہ بھونکنا۔

۲۔ ثغِبَ ـ ثغبًا الجمدُ: برف کا پگھلنا۔ ـ الدمُ: خون کا بہنا۔ تثغّبت لثتُهُ بالدم: کے مسوڑے سے خون بہنا۔ الثغب جمع ثغاب و اثغاب و الثغب جمع ثغبان و ثغبان: پہاڑ کے سایہ میں تالاب جہاں دھوپ نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کا پانی ٹھنڈا ہو۔

ثغر ۱۔ ثغرَ ـ ثغرًا الاناءَ: برتن میں سوراخ کرنا یا اس کو توڑنا۔ ـ الجدارَ: دیوار کو گرا دینا۔ الثغر جمع ثغور: وہ جگہ جہاں سے دشمن کے حملہ کا خطرہ ہو، ساحل سمندر پر واقع شہر (مولدین کی اصطلاح میں)، پہاڑ یا وادی کی کشادگی، سرحد۔ کہا جاتا ہے: امسوا ثغورًا: وہ منتشر ہو گئے۔ الثغرة: رخنہ۔ المثغر جمع مثاغر: راستہ، دشمن کے ملک کی سرحد۔ الثغور: سرحدوں پر خطروں کی جگہ۔

۲۔ ثغرَ ـ ثغرًا الثلمةَ: رخنہ بند کرنا۔ کہا جاتا ہے: ثغرهم و ثغر عليهم: اس نے درے میں داخل ہونے کے تمام راستے ان پر بند کر دیے۔

۳۔ ثغرَ ـ ثغرًا سنهُ: کا دانت نکالنا۔ ـ الرجلَ: کے دانت توڑنا۔ ثغرَ و اثغرَ: کا منہ کچلا جانا۔ ـ الصبيُّ: بچہ کے دانتوں کا گرنا، بچہ کے دانت اگنا۔ اثّغرَ و اتّغر الصبيُّ: بچے کے دانت گرنا یا اگنا۔ الثغر جمع ثغور: اگلے دانت، منہ۔

۴۔ الثغرة جمع ثغر: آسان راستہ (اسی سے مجاز ا ہے: هو يخترق ثغر المجد: وہ بزرگی کے راستوں پر چلتا ہے۔)، ہنسلی کا درمیانی گڑھا۔

○ ثغر جمع ثغور: سامنے کا دانت، منہ، بندرگاہ، جہازوں کی قیام گاہ، چھوٹی کھاڑی، زمین سے گھرا ہوا چھوٹا سمندری حصہ، خلیج، کھاڑی، بندرگاہ والا شہر۔ ثغرة جمع ثغر: شگاف، رخنہ، درز، سوراخ، دراڑ، روزن، راستہ، منہ، خندق، کھائی، پہاڑ کے درمیان تنگ راستہ، ٹھوس جسم میں خالی جگہ، خلا، غار، گڑھا، درہ، وادی۔

ثغم: ۱۔ ثاغمَ ہُ: کا بوسہ لینا۔

۲۔ اثغمَ الرجلَ: کو غضبناک کرنا، بتلائے بدہضمی کرنا۔

۳۔ اثغمَ الوادي: وادی کا درخت، ثغام اگانا۔ ـ الرأسُ: سر کا سفید ہونا۔ الثغام: واحد ثغامة (ن): پہاڑوں میں اگنے والے درخت جن کے پھول سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔

۴۔ الثغم: کاٹنے والا کتا۔

○ ثغام: سفید، سفیدی۔ ثاغم: سفید۔

○ ثغا ـ ثغاءً: بھیڑ کا بھیں بھیں کرنا، میں میں کرنا۔ ثغاء: بھیں بھیں، میں میں۔ ثاغ: بھیں بھیں کرنے والا، میں میں کرنے والا۔ ماله ثاغية ولا راغية: اس کے پاس بالکل کچھ نہیں، وہ تمام وسائل سے محروم ہے۔ لفظی مفہوم: اس کے پاس نہ تو میں میں کرنے والی (بھیڑ) ہے اور نہ ہی بلبلانے والی (اونٹنی)۔

ثغا: ثغا ـ ثغاءً تِ الشاة: بکری کا ممیانا۔ اثغى اثغاءً الشاةَ: بکری کو ممیانے پر اکسانا۔ کہا جاتا ہے: اتيته فما أثغى ولا أرغى: میں اس کے پاس آیا تو اس نے تو مجھے بکری دی نہ اونٹنی۔ الثاغي (فا): کہا جاتا ہے: ما بالدار ثاغ ولا راغ: گھر میں کوئی نہیں۔ ماله ثاغية ولا راغية: اس کے پاس نہ بکری ہے نہ اونٹنی۔ الثغية: بھوک، قبیلہ کا خالی ہو جانا۔ کہا جاتا ہے: اصاب الحيَّ ثغيةٌ: قبیلہ کو بھوک کی آفت پہنچی۔

ثفأ: ثفأ ـ ثفأً القدرَ: ہانڈی کے جوش کو ٹھنڈا کرنا۔

ثفد: ثفّدَ الدرعَ: زرہ کو لباس کے نیچے پہننا۔ الثفافيد: کپڑوں کے استر، اوپر نیچے سفید بادل۔ المثافيد واحد مثفد: کپڑوں کے استر۔

ثفر: اثفرَ و ثفرَ الحمارَ: گدھے کو پیچھے سے چلانا، ہانکنا، کی دمچی بنانا یا اس سے باندھنا۔ استثفر الكلبُ بذنبه: کتے کا دم دبانا۔ ـ المصارعُ بثوبه: پہلوان کا لنگوٹ باندھنا۔ الثفر و الثفر جمع اثفار: زین کے پچھلے حصہ کا تسمہ۔

○ ثفر جمع اثفار: (زین کی) دمچی، لید خور، گھوڑے کے چار جامے کی دمچی۔

ثفل: ۱۔ ثفل ـ ثفلًا و ثفّل الشيءَ: چیز کو یکبارگی بکھیر دینا۔

۲۔ ثفلَ ـ ثفلًا و ثفّلَ الرحى: چکی کے نیچے چمڑہ رکھنا۔ الثفال: چکی کے نیچے بچھایا جانے والا چمڑہ۔ ـ والثفال: چکی کا نچلا پاٹ۔

۳۔ ثافلَهُ: کا ہم نشین ہونا۔ تثفّل استهُ: بیٹھنا۔

۴۔ اثفلَ الخمرُ: شراب کا نتھرنا۔ ـ الشرابُ: شراب کا تلچھٹ والا ہونا۔ الثفل و الثافل: تلچھٹ۔

۵۔ تثفّلَ: مجد و بزرگی میں کوتاہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: تثفّله عرق [illegible] کم اصل نے اس کو شرف و بزرگی میں کوتاہی کرنے والا بنا دیا۔

۶۔ الثفال: آہستہ رفتار اونٹ وغیرہ۔

○ ثفل: تلچھٹ، دُرد، گاد، بچا کھچا، بقیہ۔

ثفن: ۱۔ ثفنَ ـ ثفنًا ہ: کو دفع کرنا، مارنا۔ ـ تِ الناقةُ: اونٹنی کا گھٹنے سے مارنا۔ الثفنة جمع ثفنات من البعير: اونٹ کے بدن کا وہ حصہ جو بیٹھتے وقت زمین پر لگے اور وہ سخت ہو گیا ہو جیسے: گھٹنے (کہا جاتا ہے: خوى البعير على ثفناته: اونٹ بیٹھ گیا)۔ ـ من الخيل: گھوڑے کے زانو کا باطنی حصہ۔ ـ من الانسان: انسان کے زانو۔

۲۔ ثفنَ ـ ثفنًا الشيءَ: کو کرتے رہنا۔ ثافنَ ہ: کے ساتھ ہم نشینی کرنا، کے ساتھ چمٹے رہنا، یہاں تک کہ اس کی نیت یا راز معلوم کر لے۔ ـ ہ على كذا: کی میں مدد کرنا۔ الثفنة: لوگوں کی جماعت۔

۳۔ ثفِنَ ـ ثفنًا ت يدهُ: کا ہاتھ کام کرنے سے سخت ہو جانا۔ اثفنَ العمل يدهُ: کام کا کسی کے ہاتھ کو سخت کر دینا۔

○ ثافنَ ہ: کا ہم صحبت ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کے ساتھ اکثر جانا۔ ـ ہ: کو کرتے رہنا، میں لگے رہنا، کو کرنا، کی مزاولت کرنا۔ ثفنة جمع ثفنات و ثفن: گلٹی، ابھار، جلد کی سختی۔

ثفا: ثفا ـ ثفوًا ہ: کے پیچھے جانا، کا تابع ہونا۔ ثفّى و اثفى القدرَ: ہانڈی کو چولہے کے پائے پر رکھنا۔ اثفى الرجلُ: مرد کا تین عورتوں سے شادی کرنا۔ المثفّي: وہ شخص جو تین یا تین سے زائد بیویوں کو دفن کر چکا ہو۔ المثفاة: وہ عورت جس کے تین یا تین سے زائد شوہر مر چکے ہوں۔

ثقب: ۱۔ ثقبَ ـ ثقبًا الشيءَ: میں سوراخ کرنا، چھید کرنا۔ انثقب الشيءُ: چیز میں سوراخ ہو جانا۔ ثقّبَ الشيءَ: چیز میں سوراخ کرنا۔ تثقّبَ الشيءُ: چیز میں سوراخ ہونا۔ ـ ہ: میں سوراخ کرنا۔ الثقب جمع اثقب و ثقوب: سوراخ، چھید۔ ـ جمع ثقوب (مو): باجے کے سوراخ۔ الثقبة جمع ثقب و ثقب: چھوٹا سوراخ۔ المثقب: برما۔ ـ والمثقب: بڑا سخت اور دشوار راستہ۔ المثقّب: سوراخ کیا ہوا۔

۲۔ ثقبَ ـ ثقوبًا تِ النارُ: آگ کا روشن ہونا۔ ـ تِ الرائحةُ: خوشبو پھیلنا۔ ـ النجمُ: ستارہ کا چمکنا۔ ـ الطائرُ: پرندے کا اونچا اڑنا۔ ثقُبَ ـ ثقابةً: سرخی میں آگ کے مشابہ ہونا۔ صفت: ثقيب مونث: ثقيبة۔ ثقّبَ النارَ: آگ جلانا۔ ـ ہ الشيبُ و ـ

فیہ الشیبُ: میں بڑھاپا ظاہر ہونا۔ اَثْقَبَ النارَ: آگ جلانا۔ اِثْقَاب و الثُقُوب: آگ سلگانے کی چھوٹی چھوٹی تیلیاں، عوام ان کو شخط، نفط یا کبریت کہتے ہیں۔

۳- ثَقَبَ ثَقَبَاتِ الناقة: اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔

۴- ثَقَبَ ثَقُبًا رایُہ: کی رائے کا نافذ ہونا۔ الثاقِب (فا): رایٌ ثاقِبٌ: بات کی تہہ تک پہنچنے والی رائے۔ عقلٌ ثاقِبٌ: عقل کامل۔ حسبٌ ثاقِبٌ: مشہور و معروف حسب۔ کہا جاتا ہے: نحن اَثْقَبُ الناسِ انسابًا: لوگوں میں ہمارا نسب سب سے زیادہ واضح ہے۔ المِثْقَب: نافذ رائے والا، بات کی تہہ تک پہنچنے والی رائے والا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ مِثْقَبٌ: باخبر تیز فہم عمدہ رائے رکھنے والا مرد۔ هو طلاعُ المثاقب: وہ بڑا ابھار اور من چلا ہے۔

○ ثَقَبَ ثَقْبًا ہ: میں برمے سے سوراخ کرنا، کو پنکچر کرنا، چیرنا، میں چھید ڈالنا، کو چھیدنا۔ ثَقَّبَ ہ: میں برمے سے سوراخ کرنا، کو پنکچر کرنا، کو چیرنا، چھیدنا، میں چھید ڈالنا۔ ثَقَّبَ و اَثْقَبَ ہ: کو روشن کرنا، جلانا۔ تَثَقَّبَ و اِنْثَقَبَ: چرنا، پنکچر ہونا، چھدنا۔ ثَقْب: چیرنا، بورنگ کرنا، پنکچر کرنا، چھیدنا (ثُقَب جمع ثقوب و اثقاب) سوراخ پنکچر، برمے کا سوراخ، ڈرلنگ کا سوراخ۔ ثُقْبَة جمع ثُقَب: سوراخ۔ ثِقاب و عُودُ الثقاب: ماچس کی تیلی، ماچس۔ ثُقُوب: (دماغ، ذہن کی) تیزی، تیز فہمی، ذہانت، ذکاوت، فراست۔ مِثْقَب جمع مَثاقِب: سوراخ کرنے والا، برمانے والا، برما، سوراخ کرنے کا اوزار، ڈرل مشین۔ اِثْقاب: جلانا، روشن کرنا۔ ثاقِب: تیز، زود فہم، معاملہ فہم، تہہ تک پہنچنے والا (ذہن، آنکھیں)۔ ثاقِبُ النظر: تیز نظر۔ ثاقِبُ الفکر: تیز فہمی، فراست، زیرکی، ذکا، دقیقہ رسی، ذہانت، کھاگ، ذہین، ہوشیار، صاحب الرای، تیز فہم، دانا، ہوشمند، سمجھدار۔

ثقف: ۱- ثَقِفَ و ثَقُفَ ثَقْفًا و ثَقَفًا و ثَقافَةً: ذہین ہونا، ہوشیار ہونا، دانا ہونا۔ صفت: ثَقْف و ثُقُف و ثَقِف و ثَقِيف۔ ثَقِفَ ثَقْفًا و ثَقافَةً و ثُقُوفَةً الكلامَ: بات کو جلد سمجھ لینا۔ ثَقِفَہ: کو جا پکڑنا، میں کامیاب ہونا، فتح مند ہونا۔ ثَقَفَ ثَقْفًا ہ: پر مہارت میں بڑھنا۔ ـ ہ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ ثاقَفَہ: پر مہارت میں غالب ہونا۔ (کہا جاتا ہے: ثاقَفَہ فثَقَفَہ: اس نے اس پر غلبہ کی کوشش کی پس اس پر غالب ہو گیا)۔ ہتھیاروں سے باہم کھیلنا، سے جھگڑا کرنا، مخاصمت کرنا۔ تَثاقَفا: دانائی میں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا، باہم جھگڑنا۔ الثِقاف من النساء: بہت ذہین عورت۔ الثِقاف: جھگڑا، مخاصمت۔ الثَقِيف: بہت ماہر، بہت ہوشیار، زیرک و چالاک۔

۲- ثَقَّفَ الرمحَ: نیزہ کو سیدھا کرنا۔ ـ الولدَ: لڑکے کو مہذب بنانا، تعلیم دینا، تربیت دینا۔ تَثَقَّفَ: مہذب بن جانا، تعلیم حاصل کرنا، تربیت پانا۔ مُثَقَّف مونث مُثَقَّفَة: مہذب، تعلیم یافتہ۔ الثِقاف: نیزوں کو سیدھا کرنے کا اوزار۔ الثَقافَة: علوم، فنون اور آداب میں دسترس۔ المُثَقَّف (شعراء کی رائے میں) نیزہ: تعلیم یافتہ۔

۳- الثَقِيف: بہت کھٹا۔ خلٌّ ثَقِيفٌ: بہت کھٹا سرکہ۔

○ ثَقِفَ ثَقَفًا ہ: کو پانا، ملنا۔ ثَقِفَ و ثَقُفَ ـ: ہوشیار و چالاک ہونا، طباع ہونا، حاضر جواب ہونا، ماہر ہونا، کاریگر ہونا۔ ثَقَّفَ ہ: کو سیدھا کرنا، کی تصحیح کرنا، کو ٹھیک کرنا۔ ـ ہ: کو تعلیم دینا، کی تربیت کرنا، سکھانا، بڑھانا، کو گرفتار کرنا۔ ـ ہ: کو ضبط کرنا، گرفت میں لینا۔ ثاقَفَ ہ: کے ساتھ شمشیرزنی کی مشق کرنا، پٹے کی مشق کرنا۔ تَثَقَّفَ: تربیت یافتہ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا۔ ثَقافَة: تہذیب، تمدن، ثقافت، ذہنی تربیت، شائستگی، تعلیم، جمع ثَقافات: کلچر، تہذیب، تمدن۔ ثَقافِي: تعلیمی، عقلی، ذہنی، تہذیبی، تمدنی، ثقافتی۔ مُلحَق ثقافي: ثقافتی اتاشی cultural attache۔ تَثْقِيف: تربیت، تعلیم، ذہنی تربیت، معارف۔ مُثاقَفَة: شمشیرزنی یا پٹے کی مشق، شمشیرزنی و پٹے بازی کا فن، شمشیر بازی، تیغ زنی۔ تَثَقُّف: مہذب ہونا، تہذیب یافتگی، شائستگی، تہذیب، تمدن، تعلیم۔ مُثَقَّف: تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، مہذب، تہذیب یافتہ، شائستہ۔

ثقل: ۱- ثَقُلَ ثِقَلًا و ثَقالَةً: بھاری ہونا، بوجھل ہونا۔ صفت: ثَقِيل و ثُقال و ثَقال جمع ثُقَلاء و ثِقال و ثُقُل ـ تِ المراۃ: عورت کا حمل ظاہر ہونا۔ ـ القولُ: کسی بات کا سننا ناگوار ہونا۔ ـ ثِقَلًا المريضُ: مریض کی بیماری کا سخت ہو جانا۔ ثَقَلَ ثَقْلًا ہ: کو وزن کرنے کیلئے ہاتھ سے اٹھانا۔ ثَقَّلَ ہ: کو بوجھل کرنا، بھاری کرنا، وزنی کرنا۔ ـ علیہ: پر بھاری بوجھ ڈالنا۔ ثاقَلَ: ثقل کھانا، کھانا یا کھلانا۔ اَثْقَلَ ہ: پر بھاری بوجھ لادنا۔ ـ تِ المراۃُ: کے حمل کا بھاری ہونا اور ولادت کا وقت قریب آنا۔ صفت: مُثْقِل و مُثْقِلَة ـ ہ المرضُ: پر بیماری کا سخت ہونا۔ تَثاقَلَ: بتکلف ثقل ظاہر کرنا۔ ـ عنہ: دیر لگانا۔ ـ القومُ: مدد طلب کرنے کے باوجود قوم کا مدد کے لئے نہ اٹھانا۔ اِسْتَثْقَلَ الشیءُ: چیز کا بوجھل ہونا۔ ـ الشیءَ: چیز کو بوجھل پانا۔ ـ بفلان: کا بوجھ محسوس کرنا۔ الثاقِل جمع ثَواقِل: بھاری، بوجھل، وزنی، سخت۔ کہا جاتا ہے: مرضٌ ثاقِلٌ: سخت بیماری۔ اصبح ثاقِلًا: اس کو بیماری نے بوجھل کر دیا۔ الثَقَل جمع اَثْقال: مسافر کا سامان اور اس کے نوکر چاکر۔ کہا جاتا ہے: للمسافر ثَقَلٌ کثیرٌ: مسافر کا سامان اور نوکر چاکر بہت ہیں۔ الثِقْل جمع اَثْقال: بوجھ، وزن۔ کہا جاتا ہے: اَعْطِہ ثِقْلَہ: اس کو اس کے برابر دو۔ الثِقَل: گراں باری۔ الثَقْلَة و الثِقْلَة و الثَقَلَة و الثُقْلَة و الثَقِلَة: کل ساز و سامان۔ کہا جاتا ہے: ارتحلوا بثقلتهم: وہ اپنے کل ساز و سامان کو لے کر چل دیئے۔ الثَقْلَة: پیٹ میں خوراک کی گرانی، اونگھ۔ کہا جاتا ہے: وجدتُ ثَقْلَةً فی جسدی: میں نے اپنے بدن میں گرانی و سستی محسوس کی۔ المِثْقال جمع مَثاقِيل: تولنے کے اوزان۔ مِثْقالُ الشیء: چیز کا وزن یا ترازو۔

۲- ثَقِلَ ثِقَلًا و ثَقالَةَ السمعُ: کچھ بہرا ہونا۔

۳- ثَقَّلَ الحرفَ: حرف پر تشدید دینا۔

۴- اِثّاقَلَ الی الدنیا: دنیا کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔

۵- الثاقِل: دینارٌ ثاقِلٌ: پورا دینار۔ الثَقَل جمع اَثْقال: ہر نفیس و قیمتی چیز۔ المِثْقال: عرف میں مثقال ڈیڑھ درہم کے وزن کا ہوتا ہے، کبھی اس سے کم یا زیادہ وزن کا بھی ہوتا ہے۔ الاَثْقال: زمین کے خزانے، دفینے، مردے۔ اسی سے قرآن مجید میں ہے: اخرجت الارضُ اثقالها: زمین (زلزلہ کے وقت) اپنے بوجھ (دفینے، خزانے وغیرہ) باہر نکال دیتی ہے۔ الثَقَلان: انسان اور جن۔

○ ثَقُلَ ثِقَلًا و ثَقالَةً: بھاری ہونا، وزنی ہونا۔ ـ ب: کو لادنا، پر بوجھ ڈالنا، کو وزنی کرنا۔ ـ علی: کے لئے برداشت کرنا، مشکل ہونا، پر بھاری ہونا، کو بہت پریشان کرنا، کے لئے کڑا، سخت یا دوبھر یا اجیرن ہونا، کے لئے بوجھل، تکلیف دہ، بھاری بھرکم ہونا، ظالمانہ، سخت یا مار ڈالنے والا ہونا۔ ـ: دوسروں کے احساسات کو فوری طور پر محسوس نہ کرنا، مٹھا یا سست ہونا، احمق ہونا، کند ذہن ہونا۔ ـ: کے لئے از حد مٹھا یا سست ہونا۔ ـ عن: کوئی کام کرنے میں سست ہونا، افسردہ، اداس، یا بجھا بجھا سا ہونا، بے ہمت ہونا، کی زحمت نہ اٹھانا۔ ثَقَّلَ ہ: کو بوجھل کرنا، کا وزن کرنا، وزن معلوم کرنا۔

ـ علی ہ: پر کا بوجھ ڈالنا، کو سے زیر بار کرنا۔ ـ علی: پر بہت زیادہ بوجھ لاد دینا، کو حد سے زیادہ زیر بار کرنا، کی طاقت سے زیادہ اس پر ٹیکس لگانا، سے بہت زیادہ مطالبہ کرنا۔ ــــ علی ب: کو سے پریشان کرنا، کو سے تکلیف دینا، کا سے ناک میں دم کرنا۔ ـ علی: کو دق کرنا، تنگ کر دینا، ستانا، چھیڑنا، تکلیف پہنچانا۔ ثقل کاھلہُ و اثقل کاھلہُ: کو زیر بار کرنا، پر بوجھ ڈالنا۔ ثقّل کاھل المیزان: بجٹ پر بوجھ ڈالنا۔ اثقل ہ/ ہ: پر بوجھ ڈالنا، پر ظلم کرنا، جبر کرنا، کو دبانا، کو پریشانی میں مبتلا کرنا، پر دباؤ ڈالنا، کو تکلیف دینا، مغموم کرنا، تشویش میں ڈالنا، پر بھاری ہونا، کے لئے برداشت کرنا مشکل ہونا۔ اثقل کاھلہ: دیکھو ثقل کاھلہُ۔ تثاقل: بھاری ہونا، بھاری ہو جانا، ــــ علی: کے لئے بوجھل ہونا، بھاری ہونا، تکلیف دہ ہونا، اجیرن ہونا، کو پریشان کرنا، ایذا دینا، پر ظلم کرنا۔ ــــ: ست ہونا، مٹھا ہونا، احمق ہونا، سادہ لوح ہونا، خراب طبیعت میں ہونا، خفا، بیزار، بدمزاج یا زود رنج ہونا، ترشرو، چڑچڑا یا تندخو ہونا۔ ـ عن: کو تکلیف دہ پا کر اس سے روگرداں ہونا، کے بارے میں یا سے سروکار نہ رکھنا، کے لئے یا کے کرنے میں بہت کاہل ہونا، ست اور مٹھا ہونا۔ اِستثقل ہ: کو بھاری، سخت، بوجھل، پریشان کن پانا۔ ــ ہ/علی: کو غصہ دلانے والا، برہم کن پانا۔ اِستثقل ظِلّہُ: کو ناپسند کرنا، کو ناقابل برداشت پانا۔ ثِقل جمع اثقال: بوجھ یا وزن، کشش ثقل، کشش زمین، گرانی، بھاری پن۔ رَفع الأثقال: وزن برداری، ویٹ لفٹنگ weight lifting۔ الثقل النوعی: ثقل نوعی، کثافت نوعی (specific gravity)۔ ثَقلَہ: تکلیف، پریشانی، مصیبت، بے چینی، بے کلی، الجھن، بے آرامی۔ ثَقالہ: گرانی، بھاری پن، آرام طلبی، سستی، کاہلی، حماقت، کند ذہنی، بے حسی، سادہ لوحی۔ ثقیل جمع ثُقلاء و ثِقال: بھاری، وزنی، بوجھل، گراں، اہم، نہایت اہم، ضروری، مہتم بالشان، سنجیدہ، متحمل، بردبار، حلیم، بھاری بھرکم، مخدوش، اجیرن، تکلیف دہ، دشوار، سخت جابرانہ، ظالمانہ، ناخوشگوار، ناپسندیدہ، ناگوار، ناموافق، پریشان کن، بدذائقہ، بدمزہ، ناپسند (شخص)۔ ثقیل الدم: ناقابل تحمل، ناقابل برداشت، ناگوار، شدید، سخت ناپسندیدہ، ناپسند (شخص)۔ ثقیل الروح: احمق، کند ذہن (شخص)، کان کھاؤ، مغز چاٹ، اجیرن، وبال جان۔ ثقیل الظل: ناقابل برداشت، ناپسندیدہ (شخص)۔ ثقیل الفھم: آہستہ آہستہ سمجھنے والا، غبی، کند ذہن۔ ثقیل السمع: اونچا سننے والا۔ صناعة ثقیلة: بھاری صنعت heavy industry۔ ماءٌ ثقیل: بھاری پانی heavy water۔ اثقل: زیادہ بھاری، زیادہ ظالمانہ۔ مِثقال جمع مثاقیل: وزن۔ مصر کا ایک باٹ جو ۲۴ قیراط یا ۴،۶۸ گرام کے برابر ہوتا ہے۔ مثقال ذرّہ: ذرہ برابر، ذرہ بھر، تھوڑی مقدار۔ مِثقال من: تھوڑا سا، ذرا سا۔ تثاقل: آرام طلبی، سستی کاہلی، حماقت، کند ذہنی، بے حسی۔ مُتثاقِل: ست کاہل، مٹھا، ڈھیلا، سادہ لوح، کودن، غبی، کند ذہن، خفا، آزردہ، بیزار، ترشرو، چڑچڑا، تندخو، بدمزاج۔ مُثقَل و مُثقّل: بوجھ ڈالا ہوا، زیر بار، حد سے زیادہ بوجھ ڈالا ہوا، زیادہ لادا ہوا، بھاری بوجھل۔ ــ ب: سے بوجھل، سے دبا ہوا۔

ثکل: ثکِلَ ـ ثُکلاً و ثکلاً و ثکلاً ابنہ: اپنے بیٹے کو گم کرنا، کھونا صفت: ثاکِل و ثکلان مونث: ثاکل و ثاکِلة و ثکلی جمع ثواکِل و ثکالی۔ أثکلَ الأمَ ولدَھا و أثکل الولدَ أمّہُ: بچہ سے ماں کو گم کرا دینا، ماں کے سامنے بچے کا مر جانا۔ ـت المرأة: عورت کا اپنے بچے کو کھو دینا۔ الثکول و المثکال جمع مثاکیل: بچہ کو بہت گم کرنے والی عورت۔ کہا جاتا ہے: نساءُ الغزاة مثاکیل: غازیوں کی عورتیں بچہ کو گم کرنے والی ہوتی ہیں۔ المَثکلَة: بچے کے گم ہونے کا سبب۔ کہا جاتا ہے: رمحہ للوالدات مَثکلة: اس کا نیزہ ماؤں کے لئے بچوں کے گم کرنے کا سبب ہے۔

○ ثکِلَ ـ ثکلاً ہ: (بچہ) گنوانا، کھونا، کے عزیز کا مر جانا۔ اثکلَ الام ولدَھا: ماں کو اس کے بیٹے سے محروم کر دینا۔ ثَکَل: اس شخص کی حالت جس نے دوست یا رشتہ دار کھو دیا ہو، عزیز کی موت پر غم۔ ثُکلان: جس کا بچہ مر گیا ہو۔ ثَکلی: عورت جس کا بچہ مر گیا ہو، گم ہو گیا ہو۔ ثاکِلة جمع ثواکِل: ماں جس کا بچہ مر گیا ہو، گم ہو گیا ہو۔

ثکم: ثکَمَ ـ ثکمًا بالمکان: کسی جگہ پر اقامت کرنا۔ ــ الامر او الطریقَ: کسی کام کو کرتا رہنا، راستہ پر چلتا رہنا۔ ـ الآثارَ: نشانات کا کھوج لگانا۔ ـ لہ الأمرَ: کے لئے کام کو واضح کرنا، کو کام اچھی طرح سمجھانا۔ ثَکِمَ ـ ثکمًا بالمکان: کسی جگہ پر اقامت کرنا۔

ثکن: الثُکنَة جمع ثُکَن (ا ع): فوجوں کا مرکز، کبوتروں وغیرہ کا غول (کہا جاتا ہے: حمام ثُکَنٌ: اکٹھے کبوتر) لوگوں کی جماعت، چوپایوں کا گلہ یا ریوڑ، گردن بند، جھنڈا۔

○ ثُکنَة جمع ثُکَن و ثُکنات: بارک، بارکین، فوجیوں کی کوٹھریوں کی قطار barracks۔

ثلّ: ۱۔ ثلّ ـ ثلًّا البئرَ: کنویں کی مٹی نکالنا۔ ـ الوعاءَ: برتن سے سب کچھ نکال لینا۔ الثلّة جمع ثِلَل و ثِلال: کنویں سے نکالی ہوئی مٹی۔

۲۔ ثلّ ـ ثلًّا و ثلّا الترابَ: مٹی گرانا یا ڈالنا۔ اِنثلّ: گرنا، زمین پر آ رہنا۔

۳۔ ثلّ ـ ثلًّا و ثللًا القومَ: قوم کو ہلاک کرنا۔ ــــ البیتَ: گھر کو گرا دینا۔ کہا جاتا ہے: ثلّ اللّٰہُ عرشھم: اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ ثُلَّ عرشھم: ان کی عزت جاتی رہی۔ اَثلّ اِثلالًا ہ: کو اس کی کی ہوئی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرنے کا حکم دینا۔ ـ فمُہُ: کے دانت گر جانا۔ تثلّل البیتُ: گھر کا ڈھیر ے ڈھیر ے گرنا، منہدم ہونا۔ الثَلَل: ہلاکت، دانتوں کا گرنا۔ الثِلّة جمع ثِلَل: ہلاکت۔

۴۔ ثلّ ـ ثلًّا و ثللًا کلُّ ذی حافرٍ: لید کرنا۔ (ہر کھر والے جانور کا)۔

۵۔ اثلّ اِثلالًا الرجلُ: بہت بھیڑوں والا ہونا۔ الثَلّة جمع ثِلَل و ثِلال: بھیڑوں کا ریوڑ، (مجازاً) اون۔ (کہا جاتا ہے: کساءٌ جیّدُ الثلّة: بڑھیا اون کا کمبل) اون اور بالوں کا مجموعہ۔ الثُلّة: انسانوں کی جماعت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یفرّق بین الثَلّة و الثُلّة: فلاں شخص بھیڑوں اور انسانوں کی جماعت میں تمیز نہیں کرتا۔ المَثلّة: صحراء میں سائبان۔

○ ثلّ ـ ثلًّا ہ: کو تباہ کرنا، کی تخریب کرنا، کو ڈھا دینا، گرا دینا۔ ــ عرشًا: تخت گرا دینا۔ اِنثلّ: تخریب کا شکار ہونا، تخت کا گرنا، کا خاتمہ ہونا۔ ثُلّة جمع ثُلَل: گروہ، جماعت، جتھا، ٹولی، ٹولہ، جمعیت، حلقہ، پارٹی (لوگوں کی) جماعت، کسی مہم پر بھیجا جانے والا فوجی ٹولہ۔

ثلب: ۱۔ ثلَبَ ـ ثلبًا ہ: کو دھتکارنا۔

۲۔ ثلَبَ ـ ثلبًا ہ: کی غیبت کرنا، پر عیب لگانا، کو ملامت کرنا، گالی دینا۔ الثِلب و الثَلِب: عیبی، ذلیل۔ المِثلب: عیب لگانے کا عادی۔ المَثلَبة جمع مثالِب: عیب (کہا جاتا ہے: ما عرفت فیہ مَثلَبةً: میں نے اس میں کوئی عیب نہیں جانا)۔ گالی۔ مثالِب الأمر: کسی امر کی خامیاں۔

۳۔ ثلِبَ ـ ثلبًا الجلدُ: کھال کا سکڑنا۔

۴-ثَلِبَ -ثَلَبًا الشیءُ: کسی شئے کا رخنہ دار ہونا-ثَلِبَ -ثَلَبًا الشیءَ: میں رخنے ڈالنا-ثَلِبَ الرجلُ: بہت بوڑھا ہونا اور دانتوں کا گر جانا-الثَلِب من الرماح: ٹوٹا ہوا نیزہ-الثِلْب جمع ثِلَبَة و اَثْلاب: بڑھاپے کی وجہ سے گرے ہوئے دانتوں والا اونٹ-الاِثْلَب والاَثْلَب جمع اَثالِب: پتھروں اور مٹی کا چورا۔

○ ثَلَبَ -ثَلْبًا ہ: پر تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا، کی برائیاں کرنا، پر تہمت لگانا، کی بے عزتی کرنا، کو بدنام کرنا، رسوا کرنا، کے نام کو بٹہ لگانا-ثَلْب: رسوائی، ہتک، ازالہ حیثیت عرفی، غیبت، بدگوئی، بہتان، جھوٹا الزام، تہمت، بے عزتی-مَثْلَبَة جمع مَثالِب: خامی، نقص، عیب، بدنامی، دھبا، داغ، بے عزتی، بے قدری، تحقیر، خفت، ذلت، رسوائی-ثَالِب: ہتک آمیز، رسوا کرنے والا، بدنام کن، افترا بردار، بہتان آمیز، بہتان باندھنے والا، تہمت لگانے والا۔

ثلث: ا-ثَلَثَ -ثَلْثًا الشیءَ: کا ایک تہائی لینا-ـــ القومَ: قوم کا ثلث مال لے لینا، قوم کا تیسرا ہونا-ثَلَثَ الاثنین: دو میں شامل ہو کر ان کو تین کر دینا-ـــ الشیءَ: کو مُثَلَّث بنانا-ـــ الشرابَ: کسی رقیق چیز کو اتنا پکانا کہ تیسرا حصہ جاتا رہے (اسی سے ہے العرق المُثَلَّث: عرق جس کا تیسرا حصہ بھاپ بن کر اڑ گیا ہو)-ـــ الشیءَ: کو تین بار کرنا-اَثْلَثَ القومُ: تین ہونا، تیس ہونا-آپ کہتے ہیں: کانوا تسعة و عشرين فاَثْلَثُوا: وہ انتیس تھے، تیس ہو گئے-الثلاثة مونث ثلاث (ع ح): تین-ثنو الثلاث: تین لڑیوں والی رسی-فَعَلَهُ ثلاثًا: اس نے اس کو تین مرتبہ کیا-الثِلْث: اونٹنی کا تیسرا بچہ-کہا جاتا ہے سقی زرعه الثِلْث: اس نے اپنی کھیتی کو تین دنوں میں ایک مرتبہ پانی دیا-الثُلُث و الثُلْث جمع اَثلاث: ایک تہائی-الثَلِيث بھی اسی معنی میں ہے-الثَلاثاء و الثُلاثاء و يومُ الثَلثاء: منگل-تثنیہ: ثُلاثاءان جمع ثُلاثاوات و ثُلاثاءات و اَثالث-ثُلاثَ او مَثْلَثَ: کہا جاتا ہے: اَتوا ثُلاثَ او مَثْلَثَ: وہ تین تین (کر کے) آئے-یہ غیر منصرف ہے اور اس میں مذکر و مونث برابر ہیں-المِثْلَث جمع مَثالِث (مو): تین لڑوں کا تانت، سارنگی کی تیسری تار-المَثْلُوث: تین سے مرکب، جس کا تیسرا حصہ لیا گیا ہو-ـــ من الحبال: تین لڑیوں سے بنی ہوئی رسی-الثالُوث: جو تین سے مرکب ہو-الثالوث الاقدس: تثلیث، توحید فی

التثلیث: باپ بیٹا اور روح القدس کے ایک ہونے کا عقیدہ-عقیدہ تثلیث-اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور روح القدس کے ایک ہونے کا عقیدہ-سرّ التثلیث: عیسائیوں کے نزدیک ذات الٰہی میں تین خدائی شخصوں کا وجود-المُثَلَّث من الحروف: تین نقطوں یا حرکتوں والا حرف-ہ تین ضلعوں والی شکل-سہ زاویاتی شکل-الثلاثون: تیس (مذکر و مونث)-المثلوث من الاکسية: اون پشم اور بالوں کا کمبل-

۲-الثُلُثِی من الخطوط: موٹے حرفوں والا خط-المُثَلِّث و المُثْلِث: شاہ سے اپنے قریبی کی غیبت کرنے والا-الثَلِثان و الثَلَثان (ن): مکو کا پودا-

○ ثَلَّثَ ہ: کو تگنا کرنا، تین گنا کرنا، تین بار کرنا-ثُلُث: لمبے لمبے حرفوں میں خوش نویسی کا سجاوٹ کے لئے لکھنے کا اسلوب-ثلاثًا: تین بار، تین دفعہ، تین مرتبہ-ثُلاثِی: تیسرے درجہ کا، (ارضیات کا) دور ثالث-ماقبل الثلاثي: ماقبل دور ثالث-ثلاثة عشر مونث ثلاث عشرة: تیرہ (۱۳)-الثالث: تیسرا-ثالثًا: تیسری بات یہ ہے کہ، تیسرے-ثالثة: ایک سیکنڈ کا ۱/۶۰-ثلاثون: تیس-الثلاثاء و یوم الثلاثاء: منگل-ثلاث و مَثْلَث: بیک وقت تین تین-ثُلاثِی: سہ طرفہ، سہ گانہ، تین حصوں والا، تین پر مشتمل، تین اطراف والا، تین جزری، تین کا-ثلاثی الزوایا: مثلث، تکونا، تین والا، سہ گانہ-ثلاثی الورقات: تین پتوں کا، تین پتا-ثالوث: عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث-باپ بیٹے اور روح القدس کے ایک ہونے کا عقیدہ، تین کا مجموعہ یا جوڑا، تین کی جوڑی-زهرة الثالوث: بنفشہ کی قسم کے پھولوں کا نام-تثلیث: عقیدہ تثلیث-تثلیثی: علم مساحت سے متعلق یا علم مساحت کا-مُثَلَّث: تین گنا، تین نقطی حرف-مُثَلَّثِی (جمع مُثَلَّثات) مثلث، سہ زاویاتی شکل-الراية المثلثة الالوان و المُثَلَّث والعلم المُثَلَّث: ترنگا جھنڈا-المثلثات و حساب المثلثات: علم مثلث، علم مساحت trignometry-المُثَلَّث الحاد: مثلث زاویہ حادہ (acute-angled triangle)-مثلث الزوايا: مثلثی، سہ زاویائی (triangular)-المثلث المتساوي الساقين: مثلث متساوی الساقین isocceles triangle-المثلث المتساوي الأضلاع: مثلث مساوی الاضلاع-المثلث القائم: مثلث قائم الزاویہ (right angled triangle)

ثلج: ا-ثَلَجَ -ثَلْجًا و اَثْلَجَت السماءُ: آسمان کا برف برسانا، برفباری کرنا، آسمان سے برفباری ہونا، برف گرنا، برف پڑنا-آپ کہتے ہیں: ثَلَجَتنا السماءُ: آسمان نے ہم پر برف برسائی، آسمان سے ہم پر برف باری ہوئی-جیسا کہ آپ کہتے ہیں: مطرتنا: آسمان نے ہم پر بارش برسائی-ثُلِجَت و اُثْلِجَت الارضُ: زمین پر برفباری ہوئی-اَثْلَجَ القومُ: لوگ برف میں پہنچے-الثَلْج جمع ثُلُوج واحد ثَلْجَة: برف-سماءٌ ثَلِجٌ: ٹھنڈا پانی-الثَلّاج: برف فروش-المَثْلَجَة: برف کی حفاظت کی جگہ، برف رکھنے کا صندوق، آئس بکس، ریفریجریٹر refrigerator-سرد خانہ، برف خانہ (cold storage)-المَثْلُوج: برف پڑی ہوئی چیز-ماءٌ مثلوجٌ: برف سے سرد کیا ہوا پانی-الثُلاجِی: بہت سفید-نَصْلٌ ثُلاجِیٌّ: بہت سفید پھل (اوزار کا)-

۲-ثُلِجَ فؤادُہ: بلید الطبع ہونا صفت مَثْلُوجُ الفؤاد: بلید الطبع، مرد، دل یا سرد مہر آدمی-اَثْلَجَ ماءُ البئر: کنویں کا پانی ختم ہو جانا-ـــ ت عنه الحُمّٰی: کا بخار جاتا رہنا، کا بخار اتر جانا-

۳-ثَلِجَ -ثَلَجًا و اَثْلَجَت نفسی بہ: جی کا کسی سے خوش ہونا، جی میں کسی سے ٹھنڈک پڑنا-ثَلَجَ -ثُلُوجًا ت نفسی بہ و الیہ: جی کا کسی سے راحت پانا اور مطمئن ہونا-اَثْلَجَ ہ: کو خوش کرنا-

○ ثَلَّجَ -تَثْلِيجًا: ثلجتُ السماءُ: برف پڑنا، برفباری ہونا، برف گرنا، برف پڑ رہی تھی-برف گر رہی تھی، برفباری ہو رہی تھی-ثَلِجَ -ثَلَجًا بـ: سے (دل روح) خوش ہونا، مسرور ہونا-ثَلَّجَ ہ: کو برف سے ٹھنڈا کرنا، کو منجمد کرنا، کو برف میں تبدیل کرنا-اُثْلِجَت السماء: برف پڑنا، گرنا، برفباری ہونا، برف برسنا، برفباری ہو رہی تھی، برف پڑ رہی تھی، برف گر رہی تھی، برف برس رہی تھی-ـــ ہ: کو ٹھنڈا کرنا، کو گیلا کرنا، تر کرنا، نم کرنا، مرطوب کرنا، سیلا کرنا-اَثْلَجَ صدرَہ: کو خوش کرنا، محظوظ کرنا، کی دل جوئی کرنا-تَثَلَّجَ: برف پوش ہو جانا، برف بن جانا، منجمد ہونا، جم کر برف ہو جانا-ثَلْج جمع ثُلُوج: پالا، برف، مصنوعی برف-نُدْفَةُ الثلج: برف کا گالا-ثَلْجِیّ: برفانی، برف کی طرح سفید، برف کی طرح کا، برف کا، برف پوش، برف سے معمور، سرد مہر، بے مروت، یخ بستہ، برف جیسا-ثَلّاج جمع ثَلّاجُون: برف فروش-ثَلّاجَة جمع ثَلّاجات: برف کا تودہ، برف کی چٹان جو سمندر میں بہتی ہوئی آئے، سمندر میں بہتا ہوا

برف کا تودہ، ریفریجریٹر، آئس بکس۔ice box۔ مُثْلَجَة جمع مَثَالِج: آئس بکس، ریفریجریٹر، برف خانہ۔ مَثْلُوج: برف پوش، برف سے ڈھکا ہوا، برف کا، برفانی، سردمہر۔ مَثْلُوجات: بہت ٹھنڈی کی ہوئی یا برف میں رکھی ہوئی کھانے پینے کی چیزیں، بہت ٹھنڈے کیے ہوئے مشروبات۔ مُثَلَّج: بہت ٹھنڈا کیا ہوا، برف جیسا ٹھنڈا، یخ بستہ، برف پوش۔

ثلع: ثَلَعَ ۔ ثَلْعًا رَأْسَه: کا سر توڑ دینا، پھاڑ دینا۔

ثلغ: ثَلَغَ ۔ ثَلْغًا رَأْسَه: کا سر توڑ دینا، پھاڑ دینا۔ اَلْمُثَلَّغُ مِنَ التَّمرِ: پھٹ کر زمین پر گری ہوئی کھجوریں۔ آپ کہتے ہیں: تناثرت الثمارُ فتَثَلَّغَتْ: پھل بکھر کر پھٹ گئے۔

ثلم: ثَلِمَ ثَلْمَةً فی مالِه: کے مال سے کچھ جاتا رہنا۔ ثَلَمَ ۔ ثَلْمًا و ثَلَّمَ الإناءَ: برتن کے کنارے توڑ دینا۔ ثَلِمَ ۔ ثَلَمًا و تَثَلَّمَ و اِنْثَلَمَ: برتن کے کناروں کا ٹوٹ جانا۔ ثَلَمَ ۔ ثَلْمًا الحائِطَ: دیوار میں رخنہ ڈالنا۔ الثَّلْم جمع اَثْلام و الثُّلْمَة فی الحائِط و نحوه: شگاف، رخنہ، ٹوٹی ہوئی جگہ۔ الأَثْلَم: ظاہر رخنہ دار شے۔

○ ثَلَمَ ۔ ثَلْمًا ہ: کو کند کرنا، کو دندانے دار یا ناہموار بنا دینا، کا کنارہ توڑ دینا، (دیوار وغیرہ) میں شگاف، سوراخ، درز، یا راستہ بنا دینا (شہرت عزت) کو گندہ کرنا، پر داغ لگانا، کو آلودہ کرنا۔ ثَلِمَ ۔ ثَلَمًا: دندانے دار ہونا یا ہو جانا، ناہموار ہونا یا ہو جانا۔ ثَلَّمَ ہ: کی دھار موڑ دینا، کو کند کر دینا، کی دھار مار دینا۔ تَثَلَّمَ: کند ہو جانا۔ اِنْثَلَمَ: (شہرت کا) گندہ ہونا، داغ دار ہونا، آلودہ ہونا، بے اعتبار ہونا، بدنام ہونا۔ ثَلْم: دندانہ، کھانچا، موکھا، شگاف، رخنہ، درز، سوراخ، راستہ، کھائی، کڑک، دراڑ، چاک۔ ثَلْمُ الصیت: رسوائی، ہتک، ازالہ حیثیت عرفی۔ ثُلْمَة جمع ثُلَم بمعنی ثَلْم۔ سَدَّ ثُلْمَةً: خلا پر کرنا۔ ثُلْمَةٌ لاتُسَدُّ: ایک خلا جسے بند نہ کیا جا سکے، ناقابل تلافی نقصان۔ ثَالِم: کند۔ مَثْلُوم: گندی، داغدار (شہرت، عزت)۔ مُتَثَلِّم: کند، کند کیا ہوا، بھاری (آواز)۔ مُتَثَلِّمُ الصیت: بری شہرت والا، مشکوک شہرت والا، مشتبہ ساکھ والا۔

ثمّ: ۱۔ ثَمَّ ۔ ثَمًّا الشیءَ: کو درست کرنا، کی اصلاح کرنا۔ آپ کہتے ہیں: ثَمَمْتُ اُمُوری: میں نے اپنے معاملات کی اصلاح کی۔ الثَّمّ: ثمّ کا مصدر بمعنی اصلاح، اسی سے ہے: کنا اهل ثَمِّهِ و رَمِّهِ: ہم اس کی اصلاح و مرمت کے اہل تھے۔ کہا جاتا ہے: هو ثَمُّهُ و رَمُّهُ او ثُمُّهُ و رُمُّهُ او ثِمُّهُ و رِمُّهُ: وہ اس کا عمدہ یا ردی ہے یا قلیل و کثیر ہے۔ کہا جاتا ہے: ماله ثُمٌّ و لارُمٌّ: اس کے پاس کچھ نہیں۔

۲۔ ثَمَّتِ الشاةُ النبتَ بِفِيهَا: بکری نے گھاس کو اپنے منہ سے اکھیڑا۔ الثُّمَّة: سوکھی گھاس کا مٹھا۔ الثُّمَام واحد ثُمَامَة: ایک قسم کی گھاس جو کمزور ہوتی ہے اور لمبی نہیں ہوتی۔ المِثَمُّ مِنَ الناس: اچھا برا ہر قسم کا کھانا کھا لینے والا۔

۳۔ اِنْثَمَّ الشیخُ: بوڑھا اور سن رسیدہ ہونا۔ صفت: ثِمَّة۔ ۔ الجسمُ: جسم کا گلنا، کمزور ہونا۔

۴۔ انْثَمَّ علیه: پر ٹوٹ پڑنا۔

۵۔ ثَمَّ و ثَمَّةَ و ثَمَّتَ: وہاں (دور کے لئے اسم اشارہ)۔ ثُمَّ: (حرف عطف ترتیب و تراخی کیلئے آتا ہے۔ جب اس پر ت داخل کی جائے تو ثُمَّتَ کہا جاتا ہے)۔ پھر، تب، بعد ازاں۔

○ ثَمَّ: وہاں۔ مِن ثَمَّ: چنانچہ، یہاں سے، ادھر سے، اب سے، بعد ازاں، اس لئے، اس واسطے، اُس وجہ سے۔ ثُمَّ: تب، چنانچہ، اسی سبب سے، مزید برآں، اس سے بڑھ کر، علاوہ ازیں، سوا، اس کے سوا، اس پر بھی، بلکہ، اور پھر، اور ایک دفعہ پھر۔ كَلَّا ثُمَّ كَلَّا: نہیں، سو بار نہیں۔ مِن ثُمَّ: تب، پھر، اس کے بعد، اس لئے، اس وجہ سے، چنانچہ۔ ثَمَّةَ (ثَمَّتَ): وہاں، وہاں ہے لیسَ ثمة: وہاں نہیں ہے۔ عَلی طرف الثُمام: آسان رسائی میں، قریب ہی۔ جَعَلَهُ علی طرفِ الثُمام: اس نے اسے بآسانی قابل فہم بنا دیا، اس نے سب کے لئے اسے معقول طور پر پیش کیا یا قابل قبول طور پر پیش کیا۔

ثما: ثَمَأَ ۔ ثَمْأً ہ: کو چربی کھلانا۔ ۔ الرأسَ: سر کچلنا۔ ۔ الانفَ: ناک کی نوک توڑنا جس سے خون بہنے لگے۔ اِنْثَمَأَ: سر کا کچلا جانا۔

ثمج: ثَمَجَ ۔ ثَمْجًا ہ: کو ملانا، مخلوط کرنا، خلط ملط کرنا۔ المُثَمِّجُ: مختلف رنگوں سے کپڑے رنگنے والا۔

ثمد: ۱۔ ثَمَدَ ۔ ثَمْدًا الشیءُ فلانًا: کسی شئے کا کسی شخص کے سب مال صرف کرانے کا سبب بن جانا۔ ۔ الناقةَ بالحلب: دوہنے میں اونٹنی کا دودھ کو سنک جانا۔ المَثْمُود مِنَ الرجال: وہ آدمی جس کو مانگنے والوں کی زیادتی کنگال کر دے۔

۲۔ ثَمَدَ ۔ ثَمْدًا و أَثْمَدَ و اِسْتَثْمَدَ الماءَ: پانی جمع کرنے کے لئے حوض کی طرح گڑھا بنانا۔ اِثَّمَدَ و اثْتَمَدَ: تھوڑے پانی کی طرف جانا، پانی کے گڑھے کی طرف رخ کرنا۔ الثَّمْد و الثَّمَد جمع ثِماد: جاڑے کے موسم کا جمع شدہ تھوڑا پانی جو گرمیوں میں خشک ہو جائے، بارش کے پانی کا گڑھا۔

۳۔ اِسْتَثْمَدَ ہ: سے بخشش مانگنا۔

۴۔ الإِثْمِد و الأُثْمُد (ك): سرمہ کا پتھر، اس کو کیمیا کے جاننے والے انٹیمو ان کہتے ہیں۔

ثمر: ۱۔ ثَمَرَ ۔ ثُمُورًا و أَثْمَرَ الشجرُ: درخت کا پھلدار ہونا صفت: ثَامِر و مُثْمِر۔ أَثْمَر الشجرُ الثَّمَرَ: درخت کا پھل لانا۔ ۔ القومَ: قوم کو پھل کھلانا۔ اِسْتَثْمَرَ الشیءَ: کو پھل دار بنانا۔ ۔ الرجلُ: پھل پانا۔ الثَّمَر واحد ثَمَرَة و ثُمُرَة جمع ثِمار و جمع الجمع أَثْمَارَ و ثُمُر (ن): (درخت کا) پھل۔ الثَّمَرَةُ: پھل، نسل، اولاد۔ ثَمَرَةُ السوط: چابک کے سرے کی گرہ۔ اسی سے ہے: اَمَرَ الجلادَ ان یدق ثمرة سوطه: اس نے جلاد کو حکم دیا کہ وہ اپنے کوڑے کے سرے کی گانٹھ کو کچل لے۔ تاکہ وہ مضروب پر ہلکا ہو۔ الثَّمْرَاءُ مِن الشجر: پھل دار درخت۔ ارضٌ ثَمْراءُ: بہت پھلوں والی زمین۔ الثَّامِر: لوبیا۔

۲۔ ثَمَرَ ۔ ثُمُورًا الرجلُ: کا مال بڑھنا، متمول ہونا، مالدار ہونا۔ ثَمَّرَ مالَه: مال کو بڑھانا دولت زیادہ کرنا۔ الثَّمَر واحد ثَمَرَة و ثَمُرَة جمع ثِمار و جج: أَثْمار و ثُمُر: مال کی قسمیں۔

۳۔ ثَمَرَةُ اللِسان: زبان کی نوک۔ ثَمَرَة القلب: دوستی، الفت، اسی سے ہے: خَصَّنِی بثمرة قلبه: اس نے مجھے اپنی دوستی کے لئے مخصوص کیا۔

○ ثَمَرَ ۔ ثُمُورًا: پھلدار ہونا، أَثْمَرَ: پھلدار ہونا۔ اِسْتَثْمَرَ ہ: سے فائدہ اٹھانا، سے استفادہ کرنا، کے لئے مفید ہونا، سے پوری طرح استفادہ کرنا، کو پورا استعمال کرنا، کو برتنا، استعمال کرنا، یا استعمال میں لانا، کا مصرف ڈھونڈنا، منفعت بخش طور پر (روپیہ) لگانا۔ ثَمَر جمع ثِمار و اثمار: پھل، میوہ، نتیجہ، انجام، اثر، تاثر، منافع، نفع، پیداوار، فائدہ، منفعت۔ ثَمَرَة (ثمر کا واحد) جمع ثَمَرات: پھل، میوہ، نتیجہ، اثر، تاثر، پیداوار، نفع، فائدہ، منفعت۔ اِسْتِثْمار: پورا استعمال، ناجائز انتفاع، استحصال، کار براری، اپنے مقصد کے لئے استعمال کرنا، نفع بخش استعمال، استعمال، استفادہ۔ مُثْمِر: پھلدار، بارور، نتیجہ خیز، پیداواری، پیدا کرنے کے قابل، بارآور، زرخیز، نفع کا، منفعت بخش، نفع بخش، پُرمنفعت۔ مُسْتَثْمِر جمع مستثمرون: استحصال کنندہ، نفع پانے والا، فائدہ اٹھانے والا۔

ثمل: ۱۔ ثَمَلَ ۔ ثَمْلاً ہ: کو کھلانا، پلانا، کا کام کرنا۔ ۔ ہ:

کی فریاد کو پہنچنا۔ ثِمالُ القوم: قوم کا فریاد رس۔

۲۔ ثَمِلَ -ثَمَلاً: شراب سے مست و مخمور ہونا۔ صفت: ثَمِلٌ۔ أَثْمَلَ ہٗ: کو مست و مدہوش کرنا۔ تَثَمَّلَ مَا فِی الإناء: برتن کی چیز کو پینا۔

۳۔ أَثْمَلَ اللبنُ: دودھ کا بہت جھاگ والا ہونا۔ ــــ و ثَمَّلَ اللبنَ: دودھ کو ہلانا کہ اس میں جھاگ اٹھ آئے اور زیادہ ہو۔ الثُمالة: جھاگ۔ الثَمِیل: کھٹا دودھ۔

۴۔ ثَمَّلَ الشیءَ: کو چھوڑ دینا۔ أَثْمَلَ الشیءَ: کو باقی رکھنا۔ الثَمَلة جمع ثُمُول و الثَمْلَة جمع ثَمَل و الثَمِیلَة جمع ثَمِیل و ثَمَائِل و الثُمَالَة جمع ثُمَال: برتن یا حوض میں بچا ہوا پانی وغیرہ۔ الثُّمَال و المُثَمَّل: زہر قاتل۔ المَثْمَلَة: بڑا حوض، پانی کی دلدل، پانی جمع ہونے کی جگہ، گندے پانی کے حوض۔ المِثْمَلَة: حوض کا کیچڑ، چرواہے کا تھیلا جو وہ اپنے کندھے پر ڈالے رکھتا ہے۔

○ ثَمِلَ -ثَمَلاً: مست، متوالا یا مخمور ہونا۔ أَثْمَلَ ہٗ: کو مست، متوالا یا مخمور بنا دینا، کو مدہوش کرنا، سرشار کرنا، مست کرنا، بے ہوش کرنا، بے خود بنانا۔ ثَمَل: سرشاری، نشہ، بے خودی، بدمستی، شراب خوری۔ ثَمْلَة: بدمستی، بلانوشی، نشے کا دورہ، غلبہ۔ ثَمِل: پیے ہوئے، نشہ میں، شرابی، نشہ باز، مخمور، مدہوش، نشہ چڑھا ہوا۔ ثُمالَة: بچا کھچا، بقیہ، تلچھٹ، کف، جھاگ، پھین، میل، فضلہ، پھپھوندی، گاد، جھاگ دار شراب سے پیالہ کا لبریز ہونا، پھیس۔

ثمن: ۱۔ ثَمَنَ -ثَمْناً الرجلَ: کے مال کا آٹھواں حصہ لینا۔ ــ الشیءَ: کا آٹھواں حصہ لینا۔ ــ القومَ: قوم کا آٹھواں ہونا۔ ثَمَّنَ الشیءَ: کو آٹھ ضلعوں والی بنانا، کے آٹھ رکن بنانا۔ أَثْمَنَ القومُ: آٹھ ہونا۔ الثُمْن و الثُمُن جمع أَثْمان: آٹھواں جزء یا حصہ (ثمین بھی اسی معنی میں ہے)۔ أتوا ثُمانَ و مَثْمَنَ: وہ آٹھ آٹھ کی تعداد میں آئے۔ الثمانیة مؤنث ثمان (ع ح): آٹھ۔ ثمانیةَ عَشَرَ رَجُلاً و ثمانیَ عَشْرَةَ امرأةً: آٹھ مرد اور آٹھ عورتیں۔ الثامِن: آٹھواں۔ الثمانون: اسی (۸۰)۔ المُثَمَّن (ھ): ہشت پہلو۔

۲۔ ثَمُنَ -ثَمَانَةً الشیءُ: قیمتی ہونا، بہت قیمت والا ہونا۔ ثَمَّنَ الشیءَ: کی قیمت کا اندازہ کرنا۔ أَثْمَنْتُ المالَ زیداً و لزیدٍ: میں نے زید کو مال کی قیمت دے دی۔ الثَمَن جمع أثمان و أثمنة و أثْمُن: بکی ہوئی چیز کا عوض، قیمت۔ المُثَمَّن: قیمت لگائی ہوئی چیز۔

○ ثَمَّنَ ہٗ: کی قیمت تشخیص کرنا، آنکنا، کی قیمت کا اندازہ لگانا، (محصول وغیرہ) تشخیص کرنا، لگانا، مقرر کرنا (خرچ وغیرہ) کا تخمینہ لگانا، کسی چیز کا اندازہ لگانا یا کرنا، کسی چیز کی قیمت لگانا یا مقرر کرنا۔ لایُثَمَّنُ: انمول، بے انداز، بے حد، بہت ہی زیادہ۔ ثَمَن: قیمت دام، مول، قدر و قیمت۔ ثَمِین: قیمتی، گراں بہا، بیش قیمت، گراں، مہنگا۔ أَثْمَن: زیادہ قیمتی، زیادہ گراں بہا، زیادہ بیش قیمت، زیادہ گراں۔ تَثْمِین: موازنہ، اندازہ، تخمینہ، جانچ، تشخیص، تعیین، قیمت کا اندازہ، مالیت، آنکنا، شرح بندی، درجہ بندی، درجہ، تقسیم۔ مُثَمِّن: اندازہ لگانے والا، تخمینہ لگانے والا، قیمت لگانے والا۔ خبیر مثمن: ٹیکس مقرر کرنے والا، محصول قائم کرنے والا، تشخیص کنندہ۔ مُثَمَّن: قیمتی، گراں بہا، قیمت لگایا ہوا، آنکا ہوا، قدر کیا ہوا، بڑی قدر کیا ہوا، بہت عزیز رکھا یا جانا ہوا۔ مُثْمَن: قدر و قیمت کی چیز۔ ثُمْنَة جمع ثُمْنات: ایک پیمانہ۔ مُثَمَّن: آٹھ گنا، ہشت پہلو۔ الثَّمَن الأَصْلِیّ: کسی چیز کو خام مال سے مصنوعات کی شکل میں بنانے کا مول یا جس قیمت پر کوئی چیز نفع کے بغیر فروخت کی جائے۔ (cost price)۔ الثَّمَنُ الأساسِیُّ: تمسکات کا اصلی نرخ، مساوی قیمت، برائے نام قیمت۔

ثن: الثُنَّة جمع ثُنَن: گھوڑے کے پاؤں کے پیچھے کے بال (گھوڑے کے ٹخنے کے)۔

ثند: الثُنْدُؤَة و الثَنْدُوَة جمع ثَنَاد (ع ا): (مرد کی) چھاتی۔

ثنی: ثَنَی -ثَنْیاً الشیءَ: کو موڑنا، لپیٹنا، تہہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: ثنی صدرَہٗ: اس نے اپنے دل میں دشمنی چھپائے رکھی۔ تَثَنَّی الشیءُ: مڑنا۔ ــ فی مشیه: چلنے میں جسم کو ایک جانب جھکانا۔ ــــ فی صدری کذا: (میرا) تردد کرنا۔ اِنْثَنَی و اثَّنَی: مڑنا، دوہرا ہونا۔ اِثْنَونَی صدرُہٗ علی البغضاء: کے سینے میں بغض و عداوت بھری رہنا۔ الثِنْی جمع أثْناء من الثوب: تہہ، شکن، چنٹ۔ آپ کہتے ہیں: ارسلتُہ ثِنْیَ کتابی: میں نے اس کو اپنے خط میں لپیٹ کر بھیجا۔ ــ من الحیّة: کنڈلی۔ ــ من الوادی: موڑ۔ ــــ من اللیل: گھڑی، وقت۔ اثناءَ الکلام: دورانِ گفتگو۔ آپ کہتے ہیں: جاؤوا فی اثناء الامر: وہ کام کے درمیان میں آئے۔ الثِناء: اونٹ کو باندھنے کی دوہری رسی۔ المَثْنی جمع المثانی من الوادی: وادی کا موڑ۔ المَثْنَی: قرآن کریم کی آیتیں۔ ــ من الشیء: کسی چیز کی دو تہیں اور طاقتیں۔ المَثْناة جمع مَثَانِیة: کجی، تہہ، لپیٹ، اون یا بالوں وغیرہ کی رسی۔

۲۔ ثَنَی -ثَنْیاً زیداً: کا دوسرا ہونا۔ آپ کہتے ہیں: ھذا واحد فاثْنِہ: یہ ایک ہے، تم دوسرے ہو جاؤ۔ فلانٌ لایَثْنی ولا یَثْلُث: فلاں شخص چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، چل نہیں سکتا۔ ــ علیه بضربۃٍ ثانیۃٍ: اس نے اس کو دوبارہ پیٹا۔ ثَنَّی الشیءَ تَثْنِیَةً: کو دوہرا کرنا۔ ــ الکلمةَ: کلمہ میں تثنیہ کی علامت لگانا۔ الحرفَ: حرف پر دو نقطے لگانا۔ ــــ بالامر: ایک کام کے ساتھ دوسرا کام متصل ہی کرنا۔ أَثْنَی الرجلَ: کا دوسرا ہونا۔ ــــ و اِنْثَنَی و اثَّنَی علیه بالضرب: کو دوبارہ پیٹنا۔ الثانی مونث الثانیة: دوسرا۔ الثِنَی جمع ثِنْیَة: اعادہ کی ہوئی بات۔ ــــ و الثُنیان: آقا سے مرتبہ میں کم۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ ثنیةُ اھل بیته: وہ اپنے گھر والوں میں سب سے کمتر ہے۔ الثَنِیّ جمع ثِناء و ثُنیان: جانور جس کے سامنے کے دانت گر گئے ہوں۔ ثَنِیَّة جمع ثَنایا: سامنے اوپر نیچے کے دو دو دانت۔ المَثْنَی جمع المثانی (مو): بربط یا باجے کا دوسرا تار۔ ــ من الدابة: جانور کے گھٹنے اور کہنیاں۔ اتوا ثُناءَ و مَثْنَی: وہ دو دو کی تعداد میں آئے۔ (غیر منصرف ہے اور مذکر و مونث دونوں کے لئے آتا ہے)۔ اِثْنان مونث ثِنْتان و اِثْنَتان: دو۔ الاثنان و یوم الاثنین: پیر کا دن۔ الثُنائیّ من الألفاظ: دو حرفی لفظ۔

۳۔ ثَنَی -ثَنْیاً الشیءَ: کو روکنا۔ ــــ زیداً عن حاجته: زید کو حاجت سے روکنا۔ اِنْثَنَی و اثَّنَی عنه: سے پھر جانا۔ اِسْتَثْنَی الشیءَ: کو مستثنی کرنا۔ ــ فلاناً و علی فلان: کو غیر کے حکم سے خارج کرنا۔ الثَّنِیَّة: استثناء۔ کہا جاتا ہے: حَلَفَ یَمِیناً لَیْسَ فِیھَا ثَنِیَّةٌ: اس نے بغیر استثناء کے قسم کھائی۔ الثَنْوَی و الثُنْیا: جسے مستثنی کیا گیا ہو۔ ــــ من الجزور: مذبوح کی سری اور پائے۔

۴۔ أَثْنَی علیه: کی تعریف کرنا۔ تَثَانَوا علیه: پر اپنی مہربانیاں ظاہر کرنا۔ الثَناء جمع أثْنِیة: تعریف، حمد و ثناء۔

۵۔ الثانیة جمع الثَوانی: سیکنڈ (second)، الالفی عَشَرِیّ (ع ا): معدے کی طرف سے پہلی باریک انتڑی یا آنت۔ الثَنِیَّة: گھاٹی کا راستہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ طَلّاعُ الثَنایا: فلاں شخص مشقتوں کو بہت برداشت کرنے والا ہے۔ تثنیة الاشتراع: حضرت موسی علیه السلام کے اسفار میں سے پانچویں کتاب۔

ثَنَی ـِ ثَنْياً ہ: کو دُگنا کرنا، تہہ کرنا، کے نیچے تہہ کرنا، کو موڑنا، جھکانا، خم کرنا۔ ــــ ہ عن: کو سے موڑنا، دور رکھنا، روکنا، سے باز رہنے کو کہنا، کو سے منع کرنا۔ ثَنَی عِنانَ فرسِہٖ: وہ گھوڑے کو سرپٹ دوڑا کر لے گیا۔
ثَنَّی ہ: کو دوگنا کرنا، کو دوبارہ کرنا، دہرانا، میں پلیٹ ڈالنا، چنت ڈالنا۔ اَثْنَی علی: کی تعریف کرنا، ستائش کرنا، کے گن گانا، کی تعریف کے پل باندھنا۔ اَثْنَی علیہ عاطِر الثناء: کا نہایت مدحیہ الفاظ میں ذکر کرنا۔ تَثَنَّی: دوگنا ہونا، دوہرا ہونا، دہرایا جانا، جھکنا، تہہ ہونا، جھولتے ہوئے یا لچکتے ہوئے چلنا۔ اِنْثَنَی: جھکنا، خم ہونا، مڑنا، تہہ ہونا، پیچھے کو مڑنا۔ ــــ عن: سے پھرنا، کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ ــــ اِلی: کی طرف مڑنا، کی طرف رخ کرنا، پر اپنے خیالات اور طاقت کو مرکوز کرنا۔ اِسْتَثْنَی ہ من: کو سے مستثنی کرنا۔ ــــ ہ: کو مستثنی کرنا۔ ثَنْی: جھکانا، تہہ کرنا، موڑنا، دور کرنا، ممانعت، روکنا، باز رکھنا، منع کرنا۔ ثِنْی جمع اَثناء: تہ، شکن، پلیٹ، چنت، سلوٹ یا شکن، موڑ، خم، پیچ کجی، گرہ، گانٹھ، ڈوری، رسی، دھاگا۔ ثِنْیاً بعدَ ثِنْیٍ: وقتاً فوقتاً۔ اَثْناءَ: کے دوران۔ فی اثناء: کے دوران۔ فی اثناء ذلک، فی تلک الاثناء، فی ہذہ الاثناء: اس اثناء میں، اس دوران میں۔ ثَنِیّۃ جمع ثَنِیّات: بمعنی ثِنْی یعنی، تہ، شکن، پلیٹ، چنت، سلوٹ یا شکن۔ ثَنِیّۃ جمع ثَنایا: درمیانی اگلا دانت، تنگ راستہ، پہاڑی پگڈنڈی۔ فی ثنایا: میں، اندر، کے مابین، کے درمیان میں۔ فی ثنایا نفسہ: (اپنے) دل میں، اندر سے، باطنی طور پر۔ فی ثنایا الکتب: کتابوں میں۔ بینَ ثنایا: میں، اندر، کے مابین۔ طلّاعُ الثنایا: بلند آرزوؤں والا۔ ثَناء: تعریف، مدح، قدردانی، سفارش۔ ثُناءَ و مَثْنَی: ایک وقت میں دو، دو دو کی تعداد میں۔ ثَنَوِی: ثنوی، ثنویت کا قائل، دوازلی قوتوں کا قائل۔ ثُنائِی: مدحیہ، ثنائیہ۔ ثُنائی: دوگنا، دونا، دوہرا، دو حصوں میں منقسم، جوڑا، جوڑے دار۔ ہر دور کے لئے ایک بار دو بنیادی، دو سازی یا دو آوازی گیت، راگ جو دو ملکر گائیں، دو آدمیوں کے گانے کا گیت۔ مُحَرِّکٌ ثُنائی المِشْوار: دو سائیکل کا انجن (two cycle engine)۔ ثُنائیۃ: دوئیت، عقیدۂ ثنویت۔ دو ازلی قوتوں کا قائل ہونا۔ الثانی: دوسرا، اگلا، آگے آنے والا، اس کے بعد۔ مابعد، ثانیاً و ثانیۃً: ثانیاً، دوسرے درجے پر، دوم، دوسری بار، ایک بار پھر، دوبارہ، پھر سے ایک دفعہ اور، علاوہ ازیں، مزید برآں۔ نیز ثانی اِثْنَین: جوڑے کا دوسرا۔ ثانَوِی: ثانوی، چھوٹا۔ اُمُورٌ ثانَوِیّۃ: ثانوی اہمیت کے امور، چھوٹے معاملات۔ مدرسۃ ثانویۃ: سیکنڈری سکول (ہائی سکول)۔ تسویغ ثانَوِیٌّ: آگے کرایہ پر دینا۔ تَثْنِیَۃ: دہرانا، اعادہ، پلیٹ ڈالنا، چنت ڈالنا، چوٹی گوندھنا، دوچند کرنا، دونا کرنا، دہرا کرنا، ازدواج، جوڑے۔ تثنیہ (گرامر) (انسانوں کے مجموعہ کا)، انجام، تتمہ، تعریف، مدح، سفارش۔ تثنیۃ الاشتراع: تورات کی کتب میں سے پانچویں کتاب، سِفر، اِستثناء۔ اِنْثِناء: جھکنا، مڑنا، لچک، نرمی، ملائمت، تہ کرنے، لپیٹنے یا مڑنے کی قابلیت۔ قابل للانثناء: تہ کئے جانے، لپیٹے جانے یا موڑے جانے کے قابل۔ اِنْثناءۃ جمع اِنْثناءات: گرہ، گانٹھ، موڑ، خم، پیچ، کجی، خمیدگی، جھونک، لچک، بل۔ استثناء: استثناء، محرومی، اخراج، ممانعت۔ باستثناءِ: کے استثنا کے ساتھ، بہ استثناء، کو چھوڑ کر، کے سوا، بجز۔ بدون استثناء: بلا استثناء۔ اِستثنائی: استثنائی، غیر معمولی، خاص۔ اِستثنائیاً: بطور استثنا، استثنا کے طور پر۔ اَحْوالٌ استثنائیۃ: ہنگامی صورت حالات۔ جلسۃ استثنائیۃ: فوری یا ہنگامی اجلاس۔ مَثْنِیّ: موڑا ہوا، تہہ کیا ہوا، لپیٹا ہوا، پلیٹ ڈالا ہوا، دوگنا کیا ہوا، دہرایا ہوا۔ مُثَنّی: دگنا، دونا، دوچند، دہرا، خمیدہ، دوہرا، صیغہ تثنیہ میں۔ مستثنی من: سے مستثنیٰ، سے خارج کیا ہوا۔

ثاب ۱۔ ثابَ ـُ ثَوْباً و ثُؤُوباً: لوٹنا۔ ــــ ثَوَباناً و اَثْوَبَ اِثْوَاباً المریضُ: بیمار کا صحت یاب ہونا۔ ثَوَّبَ الرجلُ: جانے کے بعد واپس آنا۔ اَثابَ اِثابۃً الرجلُ: مریض کا صحت یاب ہونا۔ اِسْتَثابَ المالَ: مال کو واپس مانگنا۔

۲۔ ثابَ ـُ ثَوْباً و ثُؤُوباً الناسُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ ــــ الماءُ: پانی کا حوض میں جمع ہونا۔ اَثابَ الماءُ الحوضَ: حوض کو بھرنا۔ الثائب من البحر: بھاٹے کے بعد سمندر کا بڑھتا ہوا پانی۔ المَثاب و المَثابۃ: مقام اجتماع، لوٹنے کی جگہ۔

۳۔ ثَوَّبَ ہ من کذا: کو کا بدلہ دینا، معاوضہ دینا۔ اَثابَ الہ الرجلَ: کو بدلہ دینا۔ ــــ جزاءہ: کو جزا دینا۔ تَثَوَّبَ: ثواب حاصل کرنا، کمانا۔ استثابَ الرجلَ: سے بدلہ مانگنا۔ الثَّواب و المَثُوبۃ و المَثْوبۃ: اچھے اور برے اعمال کی جزاء، خصوصاً اچھے اعمال کی جزا۔

۴۔ ثَوَّبَ الداعِی: کپڑے کو ہلا کر اشارہ کرنا۔ الثَّوب جمع ثِیاب و اَثْواب و اَثْوُب: لباس۔ کہا جاتا ہے: اُسْلُلْ ثِیابَکَ من ثیابی: مجھے چھوڑ دو اور جاؤ۔ طاہِرُ الثیاب: پاک نفس، اچھے چال چلن کا۔ دَنِسُ الثیاب: بدباطن، بداخلاق۔ الثَّوّاب: بزاز، کپڑے بیچنے والا، کپڑوں والا۔ الثِّیابی: کپڑوں کی حفاظت کا ذمہ دار۔

۵۔ ثَوَّبَ و تَثَوَّبَ المُصَلِّی: فرض کے بعد نفل نماز ادا کرنا۔

۶۔ الثائِب: بارش سے پہلے کی تند ہوا۔ الثَّوَاب: شہد، شہد کی مکھی۔ مَثاب و مَثابَۃ البِئر: کنوئیں کے اردگرد کے اونچے پتھر۔

○ ثابَ ـُ ثَوْباً ل/اِلی: کی طرف لوٹنا، کے پاس واپس آنا۔ ــــ ب اِلی: کو کوئی چیز واپس کرنا۔ ثابَ اِلی نفسہ: ہوش میں آنا۔ ثابَ الیہ رُشْدُہ: کے حواس ٹھکانے لگنا۔ ثَوَّبَ ہ: (اللہ تعالی کا) کسی کو انعام دینا۔ اَثابَ ہ ہ: کا سے معاوضہ دینا، کو سے بدلہ دینا۔ ــــ ہ علی: کو کا انعام دینا۔ استثواب: انعام مانگنا۔ ثَوْب جمع ثِیاب و اَثواب: لباس، پوشاک، کپڑا، سامان، مال، مجازاً مخصوص لباس، ظاہری شکل، وضع قطع، بھیس، اوٹ، آڑ، نقاب، مصنوعی چہرہ۔ ثِیاب: کپڑے، لباس، پوشاک۔ ثیاب السَّہْرَۃ: رسمی لباس، شام کا لباس۔ فی ثوبٍ بسیط: سادہ بلا تصنع شکل میں۔ طاہر الثیاب: بے عیب کردار کا حامل، بے داغ، جس پر حرف یا الزام نہ آسکے۔ ثَواب: بدلہ، جزا، سزا، تلافی، انعام، خوبی، وصف، نیک نامی۔ مَثُوبَۃ: بدلہ، جزا، سزا، انعام۔ مَثاب و مَثابۃ: لوٹنے کی جگہ، مقام اجتماع، وعدہ کی ملاقات کا مقام، جس کے پاس بار بار جایا جائے، جس سے رجوع کیا جائے۔ ملجا، ماوی، جائے پناہ۔ مَثابَۃ: جگہ یا وقت جہاں یا جس میں کوئی چیز نمایاں ہو یا بار بار ہو، وضع قطع، طرز، ڈھنگ، طریقہ، انداز، چال ڈھال طور، اسلوب، چال، ریت، روش، روپ، تراش، شکل، صورت۔ بِمَثابَۃ: کے مانند، کی مثل، کے ہم پلہ، مساوی، برابر، مترادف، کے برابر کا، کا ہم پایہ، مرادف، ہم قیمت، کے سے فرض منصبی والا کا سا مقصد رکھنے والا۔

ثاخ: ثاخَ ـُ ثَوْخاً و ثُیُوخاً الاصبعُ فی الورم او الرِجلُ فی الوحل: انگلی کا ورم میں یا پاؤں کا کیچڑ میں دھنس جانا۔

ثار ۱۔ ثارَ ـُ ثَوْراً و ثُؤُوراً و ثَوَراناً و تَثْوَاراً: جوش میں آنا (اسی سے ہے: ثارت الفتنۃ بینھم فتنہ و فساد ان میں بھڑک اٹھا)۔ ــــ نفسُہ: کا جی متلانا۔ ــــ الیہ و بہ: پر کود پڑنا، حملہ کرنا۔ ــــ الغبارُ او الدخانُ: غبار یا دھوئیں کا بلند ہو کر پھیل جانا۔ ــــ الجرادُ: ٹڈیوں کا نمودار ہونا۔ ثَوَّرَ و اَثارَ و اِسْتَثارَ: کو جوش دلانا، اڑانا۔

ہمارے ادارہ کی اہم مطبوعات

فلسفہ شریعت اسلام	مترجم	احمد رضا اعظمی
تاریخ ادب عربی	مترجم	محمد نعیم صدیقی
العبرات	مترجم	محمد امین کھوکھر
النحو الواضح ابتدائیہ مکمل	مترجم	محمد امین کھوکھر
النحو الواضح ثانویہ مکمل	مترجم	محمد امین کھوکھر
اشراق نوری شرح قدوری	مترجم	محمد امین کھوکھر
اصول الشاشی	مترجم	محمد نعیم صدیقی
المنجد عربی اردو	مترجم	عصمت ابوسلیم
مصباح اللغات	مترجم	مولانا عبدالحفیظ بلیاوی
قصص النبیین مکمل	مترجم	ڈاکٹر اصغر اسد
القراۃ الرشید مکمل	مترجم	محمد امین کھوکھر
زاد الطالبین	مترجم	محمد امین کھوکھر
القراۃ الراشدہ	مترجم	محمد امین کھوکھر
القاموس الوسیط عربی اردو میڈیم سائز	مترجم	عصمت ابوسلیم
قاموس البشیر اردو عربی	مترجم	محمد یسین قصوری
تاریخ التفسیر و مفسرون	مترجم	امام ذہبی
حیات الحیوان الجاحظ	مترجم	احمد رضا اعظمی
البلاغت الواضح عربی اردو	مترجم	احمد رضا اعظمی

تثوّر: جوش میں آنا، اٹھنا۔ ثاورَ مثاورۃً و ثواراً ہ:
پر حملہ کرنا۔ الثورۃ: جوش و ہیجان۔ الثائر (فا): کہا
جاتا ہے: ثار ثائرہ و فار فائرہ وہ غضبناک ہو گیا۔
رأیتہ ثائر الرأس: میں نے اس کو بڑھاپے کے سبب
سفید سر یا بکھرے ہوئے بالوں والا دیکھا۔ الثائرۃ جمع
ثوائر: شوروغل، عام ہنگامہ، گڑبڑ۔ ثوران و ثور
الشفق: شفق کی سرخی اور انتشار۔
۲۔ ثوّر الامر: کسی معاملہ میں کھود کرید کرنا۔ ـــ الکتاب
معانی کتاب پر بحث کرنا۔
۳۔ الثور جمع ثیران و اثوار و ثیار و ثیرۃ و ثورۃ
(ح) بیل۔ (فلک) آسمان کا ایک برج، ناخن کی جڑ
کی سفیدی۔ الثورۃ: گائے، کثرت۔ کہا جاتا ہے:
ثـ[illegible] رحال اور مال: بہت مرد، بہت ریت۔
ا[illegible]ورۃ: بہت بیلوں والی زمین۔
○ ثار ـُ ثورًا: ہلنا، حرکت کرنا، جوش میں آنا، بھڑکنا،
جاگ اٹھنا، ابھارا جانا، برانگیختہ ہونا، اشتعال میں آنا،
مشتعل ہونا، گرد و غبار کا اٹھنا، چکر کھانا۔ (سوال،
مسئلہ، مشکل) پیدا ہونا۔ ـــ فی وجھہ: کے سامنے
(سوال، مسئلہ، شکل) پیدا ہونا۔ ـــ اچانک شروع ہو
جانا۔ ـــ علی: کے خلاف بغاوت کرنا، ہتھیار اٹھانا۔
ـــ بہت زوروں کا ہونا، سخت تیز ہونا۔ ثار ثائرہ:
طیش میں آجانا۔ اثـار ہ: کو ہلانا، متحرک کرنا، کو
مضطرب کرنا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا، اشتعال دلانا، میں
ہیجان پیدا کرنا، برہم کرنا، کو ہیجان میں لانا، پریشان
کرنا، دق کرنا، برافروختہ کرنا۔ ـــ ہ (احساسات)
کو ابھارنا، جگانا، بھڑکانا، جوش میں لانا۔ ـــ ہ: کو وجود یا
عمل میں لانا، کا باعث بننا، جگانا۔ ـــ مسألۃً:
(سوال، مشکل) کی طرف توجہ دلانا، (سوال) کرنا،
(مشکل) پیش کرنا۔ أثار ثائرتہ: کو طیش میں لانا،
برانگیختہ کرنا، اشتعال دلانا۔ استثار ہ: (جذبات
وغیرہ) برانگیختہ کرنا، ابھارنا، بھڑکانا۔ ـــ ہ: برانگیختہ
کرنا، (جذبات) بیدار کرنا، ابھارنا، ہوشیار کرنا۔ ـــ ہ
من: کی (چیخیں) نکلوانا۔ ـــ ہ علی: کو کے خلاف
اکسانا۔ استثار غضبہ: کو ناراض کرنا، طیش میں
لانا۔ ثور جمع ثیران: سانڈ، بچھڑا، بیل، برج ثور۔
شوربۃ ذیل الثور: بیل یا بچھڑے کے دم کی یخنی۔
ثورۃ: جوش، اضطراب، (وبا کا) پھوٹ پڑنا، (جنگ
کا) اچانک شروع ہونا، پھٹ پڑنا، دورہ (طیش وغیرہ
کا)، (کوہ آتش فشاں کا) پھٹنا۔ (جمع ثورات)
انقلاب عظیم، بغاوت، (حکومت کے خلاف) باغیانہ
تحریک، انقلاب۔ ثورۃ اھلیۃ: خانہ جنگی۔ مثار:
محرک، شوق، جذبہ، رغبت، مہیج، وجہ، سبب، مہمیز۔

مثار الجدل و مثار النزاع: وجہ نزاع۔ إثارۃ:
جوش حرکت دینا، ہلانا، جوش میں لانا، بھڑکانا، ہلچل،
اشتعال، اضطراب، شورش، تحریک، ترغیب، برانگیختگی،
طیش، غیض و غضب بیدار کرنا، مشتعل کرنا، اکسانا،
بھڑکانا، جوش دلانا، ہوشیار کرنا، جھلاہٹ، ہیجان،
سوزش، جلن۔ ثائر: جوش میں آیا ہوا، مضطرب، بہکی
بہکی باتیں کرنے والا، از خود رفتہ، برہم، غضبناک،
پاگل، سرکش، باغی، باغیانہ، سرکشانہ جمع ثوّار: مفسد،
فتنہ انگیز باغی، سرکش، متمرد، انقلابی۔ ثائرۃ جمع ثوائر
ہنگامہ، شورش، بلوہ، دنگا، شور و غوغا، بے چینی،
اضطراب، جوش و خروش، غضب، قہر، غصہ، طیش، تاؤ۔
مُثیر: جوش دلانے والا، ابھارنے والا، ہیجان پیدا
کرنے والا، ابھارنے والا، اکسانے والا، برانگیختہ
کرنے والا، اشتعال انگیز، محرک، نشاط انگیز، تپک اور
جلن پیدا کرنے والا، ہیجان میں لانے والا، عامل
(جمع عوامل)۔ مُثیرات: نشاط انگیز، چستی پیدا کرنے
والی مشروبات یا دوائیں۔
○ ثوریوم: تھوریم thorium (ایک تابکار دھاتی عنصر
کا نام)۔

ثاع: ثاع ـُ ثوعًا الماءُ: پانی کا بہنا۔

ثول: ۱۔ ثوِلَ ـَ ثولاً و ثالَ ـُ ثولاتِ الشاۃ خاصۃً:
بکری کا دیوانی ہونا۔ ـــ الرجلُ: آدمی کا بیوقوف
ہونا صفت: اثول مؤنث ثولاء جمع ثول و جج
اثاولہ۔
۲۔ تثوّل النحلُ: شہد کی مکھیوں کا جمع ہونا۔ ـــ علیہ
القومُ: کو لوگوں کا برا بھلا کہنا اور زدوکوب کرنا۔ انثال
انثیالاً علیہ الترابُ: پر مٹی کا گرنا۔ کہا جاتا ہے:
انثال علیہ الناس من کلّ وجہٍ: لوگ اس پر ہر
طرف سے ٹوٹ پڑے۔ انثال علیہ القولُ: کی
زبان سے بے ساختہ بات نکل جانا۔ الثول: شہد کی
مکھیوں کا جھنڈ۔ اس لفظ سے واحد نہیں ہے۔
الثویلۃ: عوام کے اجتماع کی جگہ، متفرق گھروں کے
لوگوں کا اجتماع۔ کہا جاتا ہے: اتی ثویلۃٌ من
الناس: لوگوں کی ایک جماعت آئی۔
○ انثال علی: کے گرد ہجوم کرنا، بھیڑ لگ جانا، جھنڈ میں
اڑنا، اثر انداز ہونا۔ ثول و ثول النحل: شہد کی
مکھیوں کی فوج۔

ثوم: الثوم واحد ثومۃ (ن) لہسن۔ الثومۃ: تلوار
کے دستہ کے کنارے کی آرائش، آپ کہتے ہیں:
سیفی ثومتہُ من فضۃ: میری تلوار کے دستہ کا
کنارہ چاندی کا ہے۔

ثوی: ثاوان: [illegible]

پیڑوں میں لگانے کی خشکی، پلیتھن۔

ثوی: ۱۔ ثوی ـِ ثواءً و ثُویًّا المکانَ و فیہ و بہ:
کسی جگہ ٹھہرنا، آباد ہونا۔ اثوی إثواءً المکانَ و
فیہ و بہ: کسی جگہ ٹھہرنا، قیام کرنا۔ ـــ ہ فی
المکان: کو کسی جگہ ٹھہرانا۔ ـــ ہ: کی مہمانی کرنا۔
ثوّی تثویۃً ہ فی المکان: کو کسی جگہ ٹھہرانا، قیام
کرانا۔ تثوّی ہ: کا مہمان بننا۔ الثاوۃ و الثایۃ:
اونٹوں کا باڑہ۔ الثوۃ جمع ثُوًی: گھر کا سامان، راستہ
کے نشان کے پتھر (راستہ کی رہنمائی کے لئے)۔
المثوی جمع مثاوٍ: منزل۔ ابو مثواہ: میزبان۔
ابو المثوی: مہمان۔ ام مثواہ: میزبان کی بیوی۔
الثویّ جمع اثویاء مؤنث ثویّۃ: قیدی، مہمان،
مہمان خانہ۔ الثویّۃ: عورت۔ (کہا جاتا ہے: ھذہ
ثویۃ فلان: یہ فلاں شخص کی بیوی ہے)، بھیڑ،
بکری، گائے، اونٹ کا باڑہ، راستہ میں نصب کیا ہوا
پتھر جو رات کے وقت چرواہے کے لئے رہنمائی کا کام
دے، جب وہ اپنی بکریوں کے پاس جائے۔
۲۔ ثوی ـِ ثواءً و ثُویًّا الرجلُ: آدمی کا مرجانا۔ ثُوِیَ:
دفن کیا جانا۔
○ ثوی ـِ ثواءً و ثُویًّا و مثوًی ب: کسی جگہ ٹھہرنا،
آباد ہونا۔ ثُوِیَ: دفن کیا جانا۔ اثوی: ٹھہرنا، رہنا۔ ـــ
ہ: کو مہمان بنانا، کو مہمان رکھنا، رہائش کی جگہ مہیا کرنا،
پناہ دینا۔ ثویّ: مہمان خانہ۔ ثُوۃ جمع ثُوًی: راہنما
کھمبا (signpost) راستہ کا نشان۔ مثوًی جمع مثاوٍ
مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، رہنے کی جگہ، گھر، مکان،
آرام گاہ۔

ثیب: ثیّب و تثیّبت المرأۃُ زوجُھا: عورت کا
موت یا طلاق کی وجہ سے اپنے خاوند سے جدا ہو جانا،
مطلقہ یا بیوہ ہونا۔ صفت: ثیّب۔ المثیّب: خاوند
سے جدا شدہ عورت۔ الثیّب: وہ عورت جو کنواری نہ
ہو، شادی شدہ مرد یا عورت (مذکر و مؤنث دونوں کے
لئے یکساں) آپ کہتے ہیں: رجلٌ ثیّبٌ: شادی
شدہ مرد۔ امرأۃٌ ثیّبٌ: شوہر سے جدا شدہ عورت،
عورت کے لئے ثیّب کی جمع ثیّبات ہے۔
○ ثیّب جمع ثیّبات: غیر شادی شدہ عورت جو کنواری نہ
رہی ہو، بیوہ، مطلقہ۔

ثیتل: ثیتل و تثیتل الرجلُ: اپنے آپ کو بے وقوف
ظاہر کرنا۔ الثیتل (ح) جنگلی بکری جمع ثیاتل۔

ثیل: الثیل و الثیّل (ن): ایک گرہ دار بوٹی زمین پر پھیلتی
ہے، عام لوگ اسے الثیّن کہتے ہیں۔

ثین: الثین: موتی نکالنے کی جگہ، موتیوں میں سوراخ
کرنے والا، ان میں سوراخ کرنے کا آلہ۔

ج (تلفظ جیم) حروف تہجی کا پانچواں حرف اور حروف ابجد میں ۳ کے برابر۔

جاب: جَابَ جَأْبًا مال کمانا، گیرو مٹی بیچنا۔ الجأب جمع جُؤُوب: گیرو مٹی، اکھڑ اجڈ آدمی (کہا جاتا ہے: فلان جأبُ الصَّبر: فلاں شخص کاموں میں پکا صابر ہے)۔ شیر۔ جأبةُ البطن: ناف۔

جئث: ۱۔ جُئِثَ جَأْثًا و جُؤُوثًا خوف زدہ ہونا صفت مَجْؤُوث (خوف زدہ)۔

۲۔ جَئِثَ جَأَثًا الرجلُ: اٹھنے یا بوجھ اٹھانے میں سست ہونا۔ أَجْأَثَهُ الحملُ: کو بوجھ کا بھاری لگنا۔ الجَأْثُ: سست رفتار، سست رفتار جتھی، غوغائی، شور کرنے والا۔

جأجأ: جَأْجَأَ جَأْجَأَةً بالإبل: جی جی کہہ کر اونٹ کو پانی پینے کے لئے بلانا، پکارنا۔ تَجَأْجَأَ عن كذا: سے رکنا، باز رہنا۔ الجُؤْجُؤُ جمع جآجي من الطائر و السفينة: پرندے کا سینہ، جہاز کا اگلا حصہ۔

○ جَاثْلِيق: دیکھو جثلیق۔

○ جُؤْجُؤ جمع جآجي: سینہ، جہاز کا اگلا حصہ، جہاز کی پیشانی، جہاز کے سامنے کا حصہ۔

جأر: ۱۔ جَأَرَ جَأْرًا و جُؤَارًا إلى الله: بلند آواز سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، گڑگڑانا۔ الثورُ: بیل کا ڈکارنا۔

۲۔ جَأَرَ جَأْرًا و جُؤَارًا النباتُ: سبزی کا بڑھنا۔۔ تِ الارضُ: زمین کا لمبی گھاس والا ہونا۔ الجَأْرُ من النبت: لمبی اور شاداب سبزی۔۔۔ و الجَأْرُ و الجَأَّرُ: موٹا اور مضبوط آدمی۔۔۔ من الغيث: بہت بارش۔

○ جَأْر و جُؤَار: مویشیوں کی آواز، ڈکرانا، گائے کی طرح بولنا، گائے کی آواز نکالنا۔ (فعل: جَأَرَ جَأْرًا و جُؤَارًا)۔

○ (۱) جار گیس (۲) جار (امریکہ کے حبشیوں کی طرز کا ناچ اور گانا)۔

○ جَازُون: گھاس کا میدان، سبزہ زار، رمنا۔

جاش: ۱۔ جَأَشَ جَأْشًا إليه: کی طرف متوجہ ہونا۔

۲۔ جَأَشَ جَأْشًا قلبُه: کا دل غم یا خوف سے مضطرب ہونا۔ الجَأْشُ جمع جُؤُوش: دل، سینہ۔ کہا جاتا ہے: رابطُ الجَأْش: بہادر۔ الجائشة: نفس۔

○ جَأْش: جذباتی الجھاؤ، ہل چل، پریشانی یا اضطراب، دل، روح۔ رَبِطَ جَأْشَهُ: خاموش، جذبات پر قابو پائے ہوئے، متحمل، ٹھنڈے مزاج کا یا اپنے آپ پر قابو پائے ہونا۔ ثابتُ الجأش: خاموش، متحمل، ٹھنڈا، اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے، جو مطلق دہشت زدہ نہ ہو۔ بِجَأْشٍ رابط: بلا جھجک، پکی جرأت سے۔

○ جَاكِتَه و جاكِتَة و جَاكِيتة: جیکٹ، کوٹ۔

جاف: جَأَفَ جَأْفًا و جَأَّفَ تجئيفا ه: کو چھپانا، خوف زدہ کرنا۔ جَأَفَ الشجرةَ: درخت کو جڑ سے اکھیڑ دینا۔ تَجَأَّفَتِ الشجرة: درخت کا جڑ سے اکھڑ جانا۔

جال: ۱۔ جَأَلَ جَأْلًا الصوفُ: اون کا اکٹھا ہونا۔۔ الصوفَ: اون کو اکٹھا کرنا۔ جَيْأَل و جَيْأَلَةُ: بجو۔ (یہ دونوں لفظ غیر منصرف ہیں)۔

۲۔ جَئِلَ جَأَلانًا: لنگڑا ہونا۔

○ جالُون: گیلن (gallon)۔

○ جالِيري: گیلری (تھیٹر کی)

○ جام جمع جامات: کپ، پینے کا برتن، کشکول، پیمانہ، کاسہ، پیالہ، ساغر، جام۔

○ جامَكِيَة جمع جامَكِيَات و جَوَامِك: تنخواہ۔

○ جامُوس جمع جَوَامِيس: بھینسا۔ جامُوسة: بھینس۔

○ جَانِرك: چھوٹی سبز کشمش، منقی (ترکی لفظ) (واحد جانركية)۔

○ جاه: عہدہ، منصب، مرتبہ، رتبہ، درجہ، مقام، حیثیت، منزلت، شان و شوکت، جاہ، عظمت، تمکنت، شہرت، جلال، بزرگی، شان کبریائی، عزت، وقار، سربلندی، بڑائی شرف، شکوہ، آن بان، شرافت، عالی ظرفی۔

جاو: الجَاوَرْس (ن): باجرہ۔

○ جاوَة: جاوا (Java) (ایک ملک کا نام)۔ جاوِي: جاوی، جاوا کا، ملک جاوا کا لوبان، ملک جاوا کا باشندہ جمع جاوون۔

○ جاوَدار: گھٹیا گیہوں، دیوگندم۔

○ جاوِيش: سارجنٹ (شاوش و شاویش)۔

جای: جَأِيَ جَأْوَةً و جُؤُوَةً الفرسُ: گھوڑے کا سیاہی مائل سرخ ہونا۔ صفت: أَجْوَأ مونث جَأْوَاء: (سیاہی مائل سرخ)۔ جَأَى جَأْيًا الثوبَ: کپڑا سینا۔۔ الشيءَ: کو روکنا، چھپانا۔۔ على الشيء: کو دانتوں سے کاٹنا۔

جبّ: ۱۔ جَبَّ جَبًّا ه: کو کاٹنا۔ اِجْتَبَّ الشيءَ: کو کاٹنا۔ الجُبُّ جمع أَجْبَاب و جِبَاب و جِبَبَة: گہرا کنواں، گڑھا۔ الأَجَبّ من الأَبْعِرة: کوہان بریدہ اونٹ۔

۲۔ جَبَّ جَبًّا ه: پر غالب ہونا۔ جَابَّ مُجَابَّةً و جِبَابًا ه: پر غالب آنا، سے فخر میں مقابلہ کرنا۔

۳۔ جَبَّ جَبَابًا النخلةَ: کھجور میں پیوند لگانا۔ تجابَّ الرجلان: ایک دوسرے کی بہن سے شادی کرنا۔

۴۔ جَبَّ الفرسُ: سفیدی کا گھوڑے کے زانو اور ایڑی تک پہنچنا۔ (صفت مُجَبَّب) تیز چلنا۔

۵۔ اِجْتَبَّ: جبہ پہننا۔ الجُبَّة جمع جُبَب و جِبَاب: جبہ، زرہ۔ — من السِّنان: بانس کا وہ حصہ جہاں نیزہ کا پھل پیوست ہو۔

۶۔ الجُبَّة جمع جُبَب و جِباب: آنکھ کے گرد کی ہڈی، کھر سے ملا ہوا پنڈلی کا حصہ۔ الجَبَاب و الجُبَاب: قحط۔

۷۔ جَبْجَبَ الرجلُ: سفر کرنا، موٹا ہونا۔ الجَبَاجِب: موٹی فربہ اونٹنیاں۔ ڈھول (جمع) الجُبْجَاب و الجُبَاجِب من المیاه: بہت پانی۔ الجُبْجُبَة جمع جَبَاجِب: چمڑے کا تھیلا (مٹی ڈھونے کا)۔

جبأ: ۱۔ جَبَأَ ـَ جَبْأً و جَبَاءً و جُبُوءً ا و جُبُوءَةً البصرُ: نگاہ کا کمزور ہونا۔ — السیفُ: تلوار کا چٹ ہونا۔ — الرجلُ: خوف کی وجہ سے باز رہنا اور واپس آنا صفت جُبَّأ و جُبَّاء: (بزدل)۔

۲۔ جَبَأَ ـَ تْ علیه الحیَّةُ: کو سانپ کا سوراخ سے نکل کر خوف زدہ کرنا۔ — علی القوم: اچانک لوگوں کے سامنے نمودار ہونا۔ أَجْبَأَ علی القوم: بلند جگہ سے لوگوں پر اچانک نمودار ہونا۔ الجَبْءُ: پہاڑی۔

۳۔ جَبِیءَ ـَ جَبَأ — عنه: باز رہنا، ڈرنا۔ اَجْبَأَ الشیءَ: کو چھپانا۔ — تِ الارضُ: زمین میں سرخ سانپ کی چھتری کا بکثرت ہونا۔ الجَبْءُ واحد الجَبْأَة جمع اَجْبُؤ و جِبَاة: سرخ رنگ کی سانپ کی چھتری، گیرو، پہاڑ میں بارش کے پانی کا گڑھا۔ اَرضٌ مَجْبَأَةٌ: زمین جس میں سرخ رنگ کی سانپ کی چھتری بکثرت پیدا ہو۔

جبت: الجِبت: بت، جادو، جادوگر، بے خیر آدمی۔

○ جُبْح جمع اَجْبُح و جِبَاح و اَجْبَاح: چھتہ، مہال، نحل گاہ۔

جبخ: ۱۔ جَبَخَ ـَ جَبْخًا: تکبر کرنا۔ — القداحَ و الکعابَ فی القمار: (جوئے میں) پانسہ پھینکنا۔

۲۔ الجَبْخَانة (ا ع): میگزین (اس کے لئے عربی میں مَسْلَحَة ہے۔ یعنی جنگ میں استعمال کے لئے بارود اور بموں وغیرہ کا گودام، اسلحہ خانہ، گولہ بارود، توپوں کا گودام۔

جبذ: جَبَذَ ـِ جَبْذًا ہ: کو کھینچنا۔ — العنبُ: انگور کا چھوٹا اور خشک ہونا۔ اِجْتَبَذَہ: کو کھینچنا۔ جَبَاذِ: (کسرہ پر مبنی) موت۔

جبر: ۱۔ جَبَرَ ـُ جَبْرًا و جُبُورًا و جِبَارةً العظمَ: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنا۔ — ـُ جُبُورًا و جَبْرًا: شکستہ ہڈی کا درست ہونا۔ جَبَرَ العظمَ: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنا۔ اِنْجَبَرَ و تَجَبَّرَ و اجْتَبَرَ: ٹوٹی ہڈی کا درست ہونا۔ الجَبْرُ: صحیح سالم ہونا، ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ جَابِر (فا): ابوجابر: روٹی۔ ام جابر: ہریسہ۔ الجِبارة: ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی درستی کا پیشہ۔ — و الجَبِیرة جمع جَبَائِر: شکستہ ہڈیوں پر باندھنے کی لکڑیاں یا پٹی۔

۲۔ جَبَرَ ـُ جَبْرًا و جُبُورًا و جِبَارةً اللّٰهُ مصیبتَه: اللہ تعالیٰ کا کسی کے گئے ہوئے مال وغیرہ کو لوٹانا یا اس کا معاوضہ دینا۔ — و جَبَّرَ الفقیرَ: غریب کو امیر بنانا۔ تَجَبَّرَ: کی گذری ہوئی حالت کا پھر لوٹنا، گئی ہوئی چیز کا واپس آنا۔ — المریضُ: مریض کا چنگا ہونا۔ — النبتُ: چر جانے کے بعد سبزہ کا پھر اُگنا۔ اِجْتَبَرَ و اِسْتَجْبَرَ: غربت کے بعد امیر ہونا۔

۳۔ جَبَرَ ـُ ہ علی الامر: کو کسی کام پر مجبور کرنا۔ أَجْبَرَہ علی الامر: کو کسی کام پر مجبور کرنا۔ — ہ: کو مذہب جبریہ کی طرف منسوب کرنا۔ الجَبْرُ: قضائے الٰہی کے وقوع کا کلی طور پر مجبورانہ اعتقاد کرنا۔ الجَبْرِیَّة و المُجْبِرَة: ایک اسلامی فرقہ جو انسان کو مجبور محض مانتا ہے (اس کے برعکس فرقہ قَدَرِیَّة کہلاتا ہے)۔

۴۔ تَجَبَّرَ: تکبر کرنا، سخت سرکش ہونا، صفت: جَبِّیر، الجَبْرُ: غرور، تکبر، مجبوری، بہادر آدمی۔ الجَبَّار: اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔ — فی صفات الخلق: مغرور و سرکش، تسلط والا، غالب (فلک) برج جوزاء (مجازا)۔ کہا جاتا ہے: طلع الجَبَّار: برج جوزا نے طلوع کیا۔ نخلة جَبَّارة: اس قدر لمبا کھجور کا درخت کہ اس پر ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ الجَبَّارة (ن): جنگلی درخت جو معروف درختوں میں سب سے بڑے درخت سمجھے جاتے ہیں، اس کی اونچائی کبھی ایک سو میٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ الجَبَرُوت و الجَبُرُوت و الجَبَرُوت: مبالغہ کا صیغہ بمعنی قدرت، طاقت، عظمت۔

۵۔ الجَبْرُ: الجبراء، علم جبر (algebra)، الجُبَار: رائیگاں، ضائع، بے بدلہ۔ کہا جاتا ہے: ذَهَبَ دمُهُ جُبارًا: اس کا خون رائیگاں گیا، یعنی اس کا انتقام نہیں لیا گیا۔ انا منهُ خلاوةٌ و جُبَار: میں اس سے پاک اور بری ہوں۔ الجَبائِر: کنگن اور بازو بند۔

○ جَبَرَ ـُ جَبْرًا و جُبُورًا ہ: (ٹوٹی ہوئی ہڈیاں) جوڑنا، کو بحال کرنا، تندرست کرنا، واپس کرنا، مرمت کر کے اصلی حالت پر لانا۔ — ہ: کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا کرنے میں مدد دینا، غربت سے نکالنا۔ — ہ علی: کو مجبور کرنا۔ — خاطرہ: کی دلجوئی کرنا، ڈھارس بندھانا، کو تسلی دینا، تشفی دینا، کی غمخواری کرنا، کو معاوضہ دینا، خوش کرنا، کی خاطر داری کرنا، کو ممنون کرنا، احسان مند کرنا، — سے مصالحانہ یا مشفقانہ سلوک کرنا۔ جَبَرَ: ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا جڑ جانا۔ جَابَرَہ: سے مہربانی کا یا دوستانہ سلوک کرنا، سے پر لطف ہونا۔ اَجْبَرَہ علی: کو پر مجبور کرنا۔ — علی: حکمرانی کرنا، اثر رکھنا۔ تَجَبَّرَ: غرور کرنا، مغرور ہونا، اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنا۔ تَجَبَّرَ اللّٰهُ بابنِكَ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے، یعنی وہ اپنے پاس لے گیا ہے۔ اِنْجَبَرَ: بہتر ہوتے جانا، مرمت کیا جانا، بحال ہونا۔ جَبْر: ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا، طاقت، مجبوری، زبردستی، دباؤ، جبر، ناجائز دباؤ، طاقت، قسمت کا فیصلہ۔ جبرا: بزور، طاقت کے بل پر زبردستی۔ علم الجَبْر: الجبراء۔ یوم جبر البحر: قاہرہ میں مقامی تیوہار، جس دن دریائے نیل کا پانی خلیج میں (اب متروک) چھوڑ دیا جاتا تھا اور اب شہر کی نہر میں چھوڑا جاتا ہے اور اس طرح آبپاشی کے موسم کے آغاز کا دن منایا جاتا ہے۔ جَبْرِی: الجبراء کا، الجبراء کے متعلق، جبری لازمی، بالجبر۔ جَبَرِی: تقدیر اور قسمت سے عدم فرار کے عقیدہ کا حامل۔ جَبْرِیه۔ جَبْرِیَة: ایک اسلامی مکتبہ فکر جو قسمت سے عدم خلاصی کی تلقین کرتا ہے، عقیدہ قضا و قدر جبریت۔ جَبَّار جمع جَبَّارون و جَبابِر و جَبَابِرة: دیو ہیکل، غیر معمولی قد و قامت کا انسان، عظیم الجثہ، دیو پیکر، ظالم، جابر، متکبر، موذی، قادر مطلق (اللہ تعالیٰ)، عظیم، جسیم، بڑا، سات ستاروں کا مجموعہ۔ جَبَّارُ الخطوة: طاقت ور طور پر ڈگ بھرنے والا، بڑے بڑے قدم اٹھانے والا۔ جِبَارة: ہڈیاں جوڑنے کا کام۔ جَبِیرة و جِبَارة جمع جَبَائِر: ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر باندھی ہوئی کھپچی، کھپچی۔ جَبَرُوت: قدرت کاملہ، طاقت، ظلم۔ جِبْرِیاء: غرور، تکبر، نخوت۔ تجبیر و تجبیر العظام: وہ طبی شعبہ جس کا ہڈیوں یا پٹھوں کے زخموں یا ان کی بیماریوں سے تعلق ہے۔ اجبار: مجبور کرنا، مجبوری، جبر، زور، زبردستی۔ اجباری: جبری، لازمی، ضروری، واجب، لازم، ناگزیر۔ التجنید الإجباری: جبری بھرتی، جبری فوجی بھرتی۔ جَابِر و مُجَبِّر: ہڈیاں جوڑنے والا۔ مَجْبُور و مُجْبَر: مجبور، مجبور کیا ہوا۔

○ جَبْرَئِیل و جِبْرِیل: ایک برگزیدہ فرشتہ کا نام، جس کے ذمے نبیوں کے پاس وحی کا لانا تھا۔

جبز: ۱۔ جَبَزَ ـِ جَبْزًا ہ: کو کاٹنا۔ الجِبْزة: ٹکڑا، کہا جاتا

ہے: جبز له من ماله جبزةً: اس نے اسے اپنے مال میں سے ایک حصہ دیا۔

۲-جَبُزَ جَبازةً الخبزُ: روٹی کا خشک ہونا۔صفت: جَبِیز: الْجَبِیز: خشک روٹی۔الجبز: کنجوس، بخیل۔

جبس: تَجَبَّسَ فی مشیه: تکبر و ناز سے چلنا۔الجِبس جمع أجباس: بزدل، کمینہ، کند خاطر، فاسق (ب) چونا، ریچھ کا بچہ۔الجِبیس جمع أجباس: ریچھ کا بچہ، کمینہ، ناکارہ۔الجبوس: رذیل، کمینہ، ناکارہ۔

الأجبس: کمزور، بزدل، کمینہ، ناکارہ۔

○ جَبَّسَ ہ: کو لیپنا، پوتنا، پر سفیدی پھیرنا، پلاستر لگانا، رنگ یا قلعی کرنا، تہہ چڑھانا، ملمع کرنا، کو جوڑنا، کو پلاستر سے جوڑنا، جمانا، کو سانچے میں ڈھالنا، پلاستر میں بٹھانا۔جبس: جپسم، کھریا مٹی، پلاستر آف پیرس plaster of Paris۔جَبّاسة: جپسم یا کھریا مٹی کی کان، پلاستر کی بھٹی۔جبس واحد جبسة: تربوز۔

جبص: جَبْصِیَّة (ن): لونگ کی قسم کا ایک پودا جس کی کئی قسمیں ہیں، بعض یورپی بعض ایشیائی اور ان میں سے بعض کی اس کے پھولوں کی وجہ سے کاشت کی جاتی ہے۔

جبل: ۱-جَبَلَ جَبْلاً ہ اللّٰهُ: کو اللہ تعالیٰ کا بنانا یا پیدا کرنا۔کہا جاتا ہے: جَبَلَهُ اللّٰهُ علی الکرم: اللہ تعالیٰ نے کرم و سخاوت اس کی فطرت میں رکھی ہے۔

الجِبْلَة و الجُبْلَة و الجَبَلَة و الجِبِلَّة: فطرت، طبیعت (کہا جاتا ہے: فلانٌ ذو جِبِلَّةٍ: فلاں سخت مزاج ہے)۔(جَبَلَه علی الخیر: اس کی طبیعت میں خیر و بھلائی ہے) اصل، جڑ، چہرہ، چہرے کا سامنے کا حصہ۔الجُبْل و الجُبْلَة: لوگوں کی ایک جماعت۔الجَبِل: بھدا۔کہا جاتا ہے: ھو جَبِلُ الوجه: وہ بھدے چہرے والا ہے۔الجِبِلِّیّ: طبعی، فطری۔الجبیل و المجبال: بدصورت۔(کہا جاتا ہے: رجلٌ جَبِیلُ الوجه: بدصورت چہرے والا)، بدخلق۔کہا جاتا ہے: امرأةٌ مِجبال: بدخلق عورت۔الجُبُلَّة: اصل، جڑ۔

۲-جَبَلَ جَبْلاً التراب: مٹی میں پانی ڈال کر اس کا گارا بنانا۔

۳-جَبَّلَ ہ: کے مختلف ٹکڑے کرنا۔

۴-أجْبَلَ ہ: کو کنجوس پانا۔الجَبَل: کنجوس۔کہا جاتا ہے: رجُلٌ جَبَلٌ: کنجوس آدمی۔

۵-أجْبَلَ: ناکام ہونا، رہنا۔کہا جاتا ہے: طَلَبَ حاجةً فأجْبَلَ: اس نے اپنی حاجت طلب کی مگر ناکام رہا۔

۶-أجْبَلَ و تَجَبَّلَ و جابَلَ المسافرُ: مسافر کا پہاڑ کی جانب جانا، پہاڑ میں داخل ہونا، اس میں سکونت پذیر ہونا۔الجَبَل جمع جبال و أجبال و أجْبُل: پہاڑ۔ابنةُ الجبل: سانپ، صدائے بازگشت، مصیبت۔

الجَبْلَة و الجِبْلَة و الجَبَلَة و الجِبِلَّة: قوت، زمین کی سختی۔الجِبال: بدن، جسم۔کہا جاتا ہے: فلانٌ خطیرُ الجبال: فلاں شخص بڑے ڈیل ڈول والا ہے۔المَجْبُول: بڑے ڈیل ڈول والا۔

۷-تَجَبَّلَ ما عِنْدَہ: کا سب کچھ لے لینا۔

۸-الجَبْل: مکان کا صحن، بہت کثیر۔حَیٌّ جَبْلٌ: بہت بڑا قبیلہ۔الجُبْلَة (ع ا): مختلف کیمیائی عناصر پر مشتمل زندہ خلیّہ میں مرکزہ کے ساتھ زندہ بنیادی عنصر بنانے والا مادہ۔الجُبْلَة: ہر چیز کی کثرت، خشک سال۔المجبال من السیوف: موٹی دھار والی تلوار۔

○ جَبَلَ جَبْلاً ہ: کو ڈھالنا، کسی چیز سے بنانا، ڈھال کر بنانا، کی تشکیل کرنا، کو صورت دینا، وضع کرنا، گھڑنا، بنانا، گوندھنا، سانا۔— ہ علی: کو کے لئے کسی فطری طبیعت، مزاج، افتادِ طبع میلان یار جحان کے ساتھ پیدا کرنا۔جُبِلَ علی: کے لئے پیدا ہونا، فطری طور پر کچھ کرنے کا خواہاں یا کچھ کرنے کے لئے تیار ہونا، کے لئے میلان یار جحان کا حامل ہونا۔جِبْلَة و جِبِلَّة جمع جِبِلّات: طبعی رجحان، طبیعت، مزاج، افتادِ طبع۔جَبَل جمع جبال و أجبال: پہاڑ، پہاڑی سلسلہ۔جبالُ الألب: کوہ الپس، جبال الأوراس اورس پہاڑ (مشرقی الجیریا میں)۔جبل جلید: برفانی تودہ۔جبل سِینا: سینائی پہاڑ۔جبلُ طارق: جبرالٹر Gibraltar۔جبلُ نار: کوہ آتش فشاں۔

جَبَلی: پہاڑی، پہاڑ کا، پہاڑی کا، کوہستانی، پہاڑی ملک کا جمع جبلیون: سکاٹ لینڈ کا پہاڑی باشندہ، کوہ پیما۔جبلاوی: سکاٹ لینڈ کا پہاڑی باشندہ، کوہ پیما۔

جَبَلایة جمع جبلایات: مصنوعی غار، غار نما سرد خانہ، غار، کھوہ۔

جبن: ۱-جَبُنَ جُبْنًا و جُبُنًا و جَبانةً: بزدل ہونا، کمزور دل ہونا صفت: جَبان جمع جُبَناء مونث جَبانة و جَبان جمع جَبانات: جَبَّنَ الرجلَ: کو بزدلی پر اکسانا، — و أجْبَنَ الرجلَ: کو بزدلی کی طرف منسوب کرنا، کو بزدل پانا۔اسی سے ہے: قاتَلْناکم فما أجْبَنّاکم: ہم نے تم سے قتال کیا تو تم کو بزدل نہیں پایا۔الجَبِین: بزدل (مذکر و مونث دونوں کے لئے)۔الجَبّانُ م جَبّانة: بہت بزدل۔المَجْبَنة: بزدلی۔کہا جاتا ہے: الولدُ مَجْبَنةٌ مَبْخَلةٌ: بیٹا انسان کو بزدلی اور بخل پر اکساتا ہے اور بزدلی اور بخل کی دعوت دیتا ہے۔

۲-جَبَّنَ اللبنَ (ط): دودھ کا پنیر بنانا۔تَجَبَّنَ اللبنُ: دودھ کا پنیر بننا اور پنیر کی طرح جمنا۔الجُبْن و الجُبُن و الجُبُنّ: پنیر۔جُبْنَة: پنیر کا ٹکڑا۔الجَبّان: پنیر فروش، پنیر والا۔المَجْبَنة: پنیر بنانے کی جگہ، ڈیری فارم، عام لوگ بکری کے بچے کی اوجھ کو مجبنہ کہتے ہیں جس سے دودھ کا پنیر بن جاتا ہے۔

۳-تَجَبَّنَ الرجلُ: موٹا ہونا۔

۴-الجَبِین جمع أجْبُن و جُبُن و أجْبِنَة: پیشانی، پیشانی کی طرف۔الجَبّان و الجَبّانة جمع جَبابین: بلند ہموار اور بے درخت زمین، مقبرہ، صحراء۔

○ جَبُنَ جُبْنًا و جَبانةً عن: کو کرنے میں بہت زیادہ بزدل ہونا، سے دبکنا۔جَبَّنَ ہ: دودھ جمانا، کا پنیر بنانا۔— ہ: پر بزدلی کا الزام لگانا، کو بزدل کہنا۔

تَجَبَّنَ: دہی جمانا، پنیر بنانا۔جُبْن، جَبانة: بزدلی۔جُبْن و جُبْنَة: پنیر۔جَبان جمع جُبَناء: بزدل، ڈرپوک، بے ہمت۔جَبّان: پنیر فروش۔جَبِین جمع جُبُن و أجْبِنَة و أجْبُن: ماتھا، پیشانی، جبین، (عمارت کا) پیش، ماتھا یا چہرہ مہرہ، اگلا حصہ، سامنا، چہرہ۔مِن جَبِینی: میں اکیلا۔علی جبین السماء: آسمان میں۔جَبِینیّ: سامنے کا، سامنے والا۔أجْبَن: زیادہ بزدل۔جَبّانة جمع جَبّانات: قبرستان، گورستان، شہر خموشاں۔تَجْبِین: پنیر سازی۔

جبه: ۱-جَبَهَ جَبْهًا الرجلَ: کے پاس اچانک آجانا، — الشتاءُ القومَ: موسم سرما کا اس وقت آجانا جب لوگ اس کے لئے تیار نہ ہوئے ہوں۔

۲-جَبَهَ جَبْهًا فلانًا: کو اس کی حاجت سے روک دینا۔

۳-جَبَهَ جَبْهًا ہ بالمکروہ: سے بری طرح پیش آنا، سختی سے پیش آنا۔الجَبْهَة جمع جِباہ و جَبَهات: ذلت۔کہا جاتا ہے: لقیتُ منه جَبْهةً: مجھے اس سے ذلت ملی۔

۴-جَبَهَ جَبْهًا الرجلَ: کی پیشانی پر مارنا۔جَبَّهَ ہ: کا سر جھکا دینا۔الجَبَه: پیشانی کی چوڑائی اور خوبصورتی۔الجَبْهَة جمع جِباہ و جَبَهات (ع ا): پیشانی۔— من الناس: لوگوں کی جماعت۔الجبهةُ الحربیة: محاذ، محاذ جنگ۔جبهةُ القوم: قوم کا سردار۔الأجْبَه مونث جَبْهاء: خوبصورت پیشانی والا، شیر۔

۵۔ اِجْتَبَہَ الماءَ وغیرہٗ: پانی وغیرہ کو ناگوار سمجھنا۔

○ جَبَہَ ـجَبْہًا ہ: کو ملنا، کے سامنے ہونا، کا سامنا کرنا، کے مقابل ہونا، کے مقابلہ پر اتر آنا۔جَابَہَہٗ ہ/ہ: کا سامنا کرنا، کے روبرو ہونا، سے دوچار ہونا، کا مقابلہ کرنا، کے سامنے ڈٹ جانا، کی مخالفت کرنا، کے مقابلہ میں آنا، کی پروانہ کرنا، کو خاطر میں نہ لانا، کا حکم نہ ماننا، کو چیلنج دینا، کی اطاعت نہ کرنا۔ ہ: کو بہادری دکھانا۔ ہ (کسی مسئلہ یا مشکل) کا سامنا کرنا۔جَبْھَۃ جمع جِبَاہ و جَبَہَات: پیشانی، ماتھا، پیش، اگلا حصہ، سامنا، چہرہ، محاذ جنگ۔مُجَابَہَۃ: سامنا کرنا، محاذ آرائی، مخالفت۔

جبا: اجَبَا ـجَبًا و جَبْوًا و جَبًا و جَبْوَۃً و جَبَاوَۃً و جَبَی ـجِبَایَۃَ الخراجَ: خراج جمع کرنا۔ــــ الماءَ فی الحوضِ: حوض میں پانی جمع کرنا۔الجَبَا جمع أَجْباء و الجَابِیَۃ جمع جَوَابٍ: اونٹوں کے پانی پینے کا حوض، حوض جس میں اونٹوں کے لئے پانی جمع کیا جائے۔المَجْبَی: خراج۔

۲۔جَبَّی تَجْبِیَۃً: ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا، سجدہ کے وقت ہاتھوں کو زمین پر رکھنا۔

۳۔أَجْبَی زرعَہٗ: کھیتی پکنے سے پہلے ہی بیچ ڈالنا۔اسی سے ہے من أَجْبَی فقد أَرْبَی: جس نے کھیتی پکنے سے پہلے اس کو بیچا تو اس نے دینے سے زیادہ لیا۔(سودی لین دین کیا)۔

۴۔اِجْتَبَی ہ: کو پسند کرنا، چن لینا۔

۵۔الجَبَا جمع أَجْبَاء: کہا جاتا ہے ھذا لکَ جَبًا: یہ تمہارے لئے مفت۔

جبی: دیکھو جَبَا۔

○ جَبَی ـجِبَایَۃً ہ: (ٹیکس، محصولات) جمع کرنا، فراہم کرنا، لگانا، عائد کرنا، جبراً وصول کرنا۔جَبَّی: (نماز میں) سجدہ کرنا۔اِجْتَبَی ہ/ہ: کو چننا، منتخب کرنا۔جِبَایَۃ: (ٹیکس) فراہم کرنا، لگانا، وصول کرنا۔ــــ جمع جِبَایَات: ٹیکس، محصول، خراج۔جِبَائِی: ٹیکس، ٹیکس کے متعلق، مالی، مالیاتی۔مُجْتَبِی جمع مُجَاب: ٹیکس، خراج۔جَاب جمع جُبَاۃ: ٹیکس کلکٹر، کلکٹر، ریونیو آفیسر، کنڈکٹر (بس وغیرہ کا)۔جَابِیَۃ جمع جَوَاب: تالاب، تسلا۔

جث: اجَثَّ ـجَثًّا و اِجْتَثَّ ہ: کو جڑ سے اکھیڑ دینا۔المَجَثَّۃ و المِجْثَاث: گھاس کھودنے کی کھرپی۔الجَثِیث واحدہ الجَثِیثَۃ من النخل: کھجور کا پودہ، چھوٹے چھوٹے کھجور کے پودے۔

۲۔الجَثّ و الجُثّ: مری ہوئی ٹڈی یا شہد کی مکھی، کھجور کا چھلکا، شہد میں ملے ہوئے مکھی کے پر وغیرہ۔الجُثَّۃ جمع جُثَث: انسان کا بدن۔ہم کہتے ہیں ھو کبیر الجُثَّۃ: وہ بھاری بھرکم ہے، اس کا اکثر و بیشتر استعمال مردہ لاش کے لئے ہے۔ہم کہتے ہیں وَقَعَ جُثَّۃً ھَامِدَۃً: وہ بے جان لاش ہو کر گرا۔

○ جَثَّ ـجَثًّا و اجتثَّ ہ: درخت وغیرہ کو جڑ سے اکھیڑنا (مجازاً بھی مستعمل ہے)۔جُثَّۃ جمع جُثَث و اَجْثَاث: جسم، لاش، لاشہ، جانوروں کی بے سری لاش، لوتھ۔مُجْتَثّ: جڑ سے اکھیڑا ہوا۔(مجازاً بھی)۔

جثل: اجَثِلَ ـو جَثُلَ ـجَثَالَۃً و جُثُولَۃً الشجرُ والشَّعرُ: درختوں یا بالوں کا بکثرت، گنجان اور سیاہ ہونا۔صفت جَثْل و جَثِیل۔

۲۔جَثْلَتْہُ ـجَثْلاً الریحُ: کو ہوا کا اڑا لے جانا، بکھیر دینا۔الجُثَالَۃ: درخت کے بکھرے ہوئے پتے۔

۳۔الجَثْلَۃ جمع جَثْل: چیونٹی۔

۴۔اِجْثَألَّ الطیرُ: پرندہ کا پر جھاڑنا۔ــ النبتُ: پودے کا لمبا اور گنجان ہونا۔ــ الرجلُ: آدمی کا غضب میں آکر لڑائی کے لئے تیار ہو جانا۔

۵۔الجَثْلِیق و الجَاثَلِیق جمع جَثَالِقَۃ: لاٹ پادری (یونانی لفظ)۔

○ جَثْل: گھنے بال خصوصاً۔جَثْلِیق جمع جَثَالِقَۃ: امریکن چرچ کا اسقف اعظم۔

جثم: اجَثَمَ ـجَثْمًا و جُثُومًا اللیلُ: آدھی رات ہونا۔الجَاثُوم و الجُثَام: کابوس۔

۲۔جَثَمَ ـجَثْمًا و جُثومًا الرجلُ او الطائر او الحیوانُ: آدمی، پرندہ یا جانور کا سینہ کو زمین سے لگانا۔صفت جَاثِم جمع جُثَّم۔الجُثَمَۃ و الجُثَّامَۃ و الجُثَم و الجُثُوم من الرجال: بہت بیٹھنے کا عادی، بہت سونے والا۔المَجْثَم جمع مَجَاثِم: بمعنی جثوم، بیٹھنے کی جگہ۔المَجْثِم: بیٹھنے کی جگہ۔الجُثْمَان: جسم، شخص۔

○ جَثَمَ ـجَثْمًا و جُثُومًا: (پرندہ کا) اترنا، بیٹھنا، زمین پر آرہنا، بسیرا لینا، دبکنا، جھکنا، سردی سے اکڑوں ہونا، اوندھا پٹ یا منہ کے بل گرنا یا لیٹنا، منہ نیچے کرکے لیٹنا۔ــــ علی: پر چاروں طرف سے حملہ کرنا، ٹوٹ پڑنا، کو گھیر لینا، کو کچلنا۔جَثْمَۃ: بے حرکت بیٹھنا یا لیٹنا۔جُثَام و جَاثُوم: کابوس۔جُثْمَان جمع جُثْمَانَات: جسم، فانی ڈھانچہ۔جُثْمَانِی: جسمانی، بدنی، مادی، حیوانی۔جَاثِم جمع جُثَّم: گھٹنے اٹھا کر بیٹھا ہوا، دبکا ہوا، اترا ہوا، بسیرا لئے، اوندھا، چپٹ، منہ کے بل گرا ہوا۔

جثا: جَثَا ـجُثُوًّا و جَثَی ـجِثِیًّا و جُثِیًّا: دوزانو بیٹھنا، پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑا ہونا۔صفت جَاثٍ جمع جُثِیّ و جِثِیّ مؤنث جَاثِیَۃ۔أَجْثَی ہ: کو زانو کے بل بٹھانا، انگلیوں کے بل کھڑا کرنا۔جَاثَی ہ: کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھنا۔تَجَاثَوا: باہم زانو کے بل بیٹھنا۔الجُثْوَۃ و الجَثْوَۃ، و الجِثْوَۃ جمع جُثًی و جِثًی: اکٹھے پتھر، مٹی کا ڈھیر، قبر۔

جثی: دیکھو جثا (اوپر)، دوزانو ہونا، گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔گھٹنوں پر ٹیک لگانا، گھٹنا موڑنا، رکوع کرنا، رکوع میں جانا، گھٹنوں پر گرنا۔جُثُوّ: رکوع کی حالت۔جُثْوَۃ: پتھروں کا ڈھیر، ٹیلا، قبر کی ڈھیری، اونچی قبر۔مَجْثَی: گرجا کی نماز کا بوریا، جانماز، گدا جس پر نماز کے وقت گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں۔جَاثٍ: دوزانو، گھٹنوں کے بل احتراماً کھڑا ہوا۔الجَاثِی (فلک): ہرکولیس (Hercules)۔

جح: جَحْجَحَ عن الأمر: سے رک جانا، مڑ جانا۔ــــ الشیءَ: کی تہ کو پہنچنا، اس کی طرف تیزی کرنا۔الجَحْجَح و الجَحْجَاح جمع جَحَاجِح و جَحَاجِیح و جَحَاجِحَۃ: فیاضی کی طرف جلد سبقت کرنے والا سردار۔

جحد: اجَحَدَ ـجَحْدًا و جُحُودًا ہ: کا کفر کرنا، کو جھٹلانا۔ــ ہ حقَّہٗ و بحقّہٖ: جان بوجھ کر کسی کے حق کا انکار کرنا۔صفت جَاحِد۔لام الجُحُود: نحویوں کی اصطلاح میں جو کان ناقصہ کی نفی کے بعد تاکید کے لئے زائد آتا ہے، جیسے ما کان ربُّکَ لیتوب علی الظالمین: خداتعالیٰ کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ ظالموں کی مغفرت کرے۔

۲۔جَحِدَ ـجَحَدًا الشیءُ: کم ہونا۔ــــ النبتُ: پودے کا دراز نہ ہونا یا کم ہونا اور دراز نہ ہونا۔ــــ الرجلُ: بے خیر ہونا۔صفت جُحْد و جَحِد و أَجْحَد: (کہا جاتا ہے عامٌ جَحِد: کم بارشوں کا سال)۔ــــ تِ الارضُ: زمین کا خشک ہونا، بے برکت ہونا۔کہا جاتا ہے ارضٌ جَحِدَۃٌ: خشک بے برکت زمین۔

۳۔جَحْدَرَہٗ: کو پچھاڑنا، لڑھکانا۔تَجَحْدَرَ الطائرُ: پر پھڑپھڑا کر پرندے کا اڑنا۔الجَحْدَر: کوتاہ قد۔

۴۔جَحْدَلَ ہٗ: کو پچھاڑنا۔

○ جَحَدَ ـجَحْدًا و جُحُودًا ہ: کا انکار کرنا، کی نفی کرنا، کے وجود سے انکار کرنا، کی تردید کرنا، کا ابطال کرنا، سے بے تعلقی یا لاعلمی ظاہر کرنا، کو تسلیم نہ کرنا، کو جھٹلانا، کو قبول نہ کرنا، سے دست بردار ہونا، کو نامنظور

کرنا، رد کرنا، چھوڑ دینا، ناجائز قرار دینا، (عقیدہ) کو چھوڑ دینا، سے قطع تعلق کرنا، کی جھوٹی قسم کھانا، کا واسطہ دلانا۔ — ہ ہ (کے حق) کو تسلیم نہ کرنا۔ جَحَدَ خَیْلَہ: کا ناشکرا ہونا، کا احسان ناشناس ہونا۔ جَحْد: رد، تردید، تکذیب، انکار، تسلیم کرنے سے انکار، قطع تعلق، استرداد، نامنظوری، ترک، کفر، بے اعتقادی (مذہبی)۔ جُحُود: رد، تردید، تکذیب، انکار، ٹال مٹول، لیت ولعل، حیلہ بہانہ، عذر، بچنا، ادھر ادھر ہٹنا، حیلے بہانے کرنا، (اخلاقی ذمہ داری سے) سے گریز، پہلوتہی یا کنی کترانا، ناشکری، ناشکرگزاری، احسان فراموشی، احسان ناشناسی، ناسپاسی، قطع تعلق، استرداد، نامنظوری، ترک، کفر، مذہبی بداعتقادی۔ جاحِد: تکذیب کرنے والا، تغلیط کرنے والا، رد کرنے والا، نامنظور کرنے والا، انکار کرنے والا، تسلیم نہ کرنے والا، قبول کرنے سے انکار کرنے والا، یقین نہ کرنے والا، باور نہ کرنے والا، لامذہب، کافر، بے دین، ملحد۔

جحر: ۱۔ جَحَرَ – جَحْرًا و تَجَحَّرَ و اِنْجَحَرَ الضَّبُّ او السبعُ: گوہ یا درندے کا سوراخ یا بھٹ میں داخل ہونا۔ جَحَرَ و أَجْحَرَ السبعَ: درندے کو بھٹ میں داخل ہونے پر مجبور کرنا۔ — ہ إلی کذا: کو پر مجبور کرنا۔ اِجْتَحَرَ: سوراخ بنانا، بل بنانا۔ الجُحْر جمع أَجْحار و جِحَرَة و أَجْحِرَة: سوراخ، بل، بھٹ۔ الجَحْر: گہرا گڑھا۔ المَجْحَر جمع مَجَاحِر: چھپنے کی جگہ، پناہ کی جگہ۔

۲۔ جَحَرَ – جَحْرَاتِ العینُ: آنکھ کا اندر کو دھنسنا۔ تَجَحَّرَتِ العینُ: آنکھ اندر کو دھنس جانا۔ عینٌ جَحْرَاء: گڑھے میں بیٹھی ہوئی آنکھ۔

۳۔ جَحَرَ – جَحْرًا فلانٌ: تاخیر کرنا، دیر کرنا، پیچھے رہنا۔ — الخیرُ: بھلائی کا پیچھے رہنا، آپ کہتے ہیں جَحَرَ الخیرُ عَنَّا: بھلائی ہم تک نہیں پہنچی۔ — ہ: کو پریشان کرنا۔ أَجْحَرَتِ السماءُ: آسمان کا بارش نہ برسانا۔ — القومُ: قوم کا قحط سالی اور سختی میں پڑ جانا۔ — ہ: کو پریشان کرنا۔ الجَاحِر: پیچھے رہ جانے والا۔ الجَواحِر: (اپنے گلہ یا ریوڑ سے) پیچھے رہ جانے والے جانور۔ الجَحْرَة و الجَحَرة: خشک سال۔

○ اِنجحر: (جانور کا) سوراخ (بل) یا بھٹ میں چھپنا۔ جُحْر جمع جِحَار و جُحور: سوراخ، بھٹ، بل، باڑا (جانوروں کا)۔

جحس: جَحَسَ – جَحْسًا الجلدَ: چمڑا چھیلنا، کھرچنا۔ — عن نفسه و عن غیره: اپنا اور غیر کا دفاع کرنا، کو اپنے اور غیر سے ہٹانا، دفع کرنا۔

جحش: جَحَشَ – جَحْشًا الجلدَ: چمڑا چھیلنا، کھرچنا۔ جاحَشَ عنه: کا دفاع کرنا۔ — ہ: سے مزاحم ہونا، سے لڑائی کرنا۔ الجَحْش جمع جِحَاش و جِحْشان و جِحَشَة مونث جَحْشَة (ح): گدھے کا بچہ، بچھیرا۔ — جمع جُحُوش و جُحُوشَة: گھوڑا، قینچی دار گھوڑی جس پر تختہ رکھا جاتا ہے۔ (عامی زبان میں)۔ الجَحْشة: ہاتھ پر لپیٹ کر کاتی جانے والی اون۔ الجَحُوش: ننھا بچہ۔

○ جحشة: نوجوان گدھی۔

جحظ: جَحَظَ – جُحُوظًا عینهُ: کی آنکھ کا ابھرے ڈھیلے والی ہونا۔ رجلٌ جاحِظ العینین: ابھری ہوئی آنکھوں والا مرد۔ جَحَّظَ إلیه: کو گھورنا، کی طرف ٹکٹکی لگانا۔ الجاحظتان: دونوں آنکھوں کے ڈھیلے۔

○ جَحَظَ – جُحُوظًا: آنکھ کے ڈھیلے کا ابھرنا، باہر کو نکلنا۔ جُحُوظُ العین: آنکھ کے ڈھیلے کا غیر معمولی طور پر باہر کو نکلا ہوا ہونا۔

جحف: ۱۔ جَحَفَ – جَحْفًا ہ: کو چھیلنا، بہا لیجانا۔ — له الطعامَ: کے لئے کھانا نکالنا۔ جُحِفَ الرجلُ: آدمی کا ہیضہ میں مبتلا ہونا۔ أَجْحَفَ السیلُ به: کو سیلاب کا بہا لیجانا۔ — الدهرُ بالناس: زمانہ کا لوگوں کو جڑ سے مٹانا، ہلاک کرنا۔ اجتحف السیل الوادیَ: سیلاب کا وادی کو کھود کر بہا لیجانا۔ — ماءَ البئرِ: کنویں کا تمام پانی نکال کر خشک کر دینا۔ — ہ: کو جڑ سے اکھیڑنا، ہلاک کرنا۔ الجَحْفَة و الجُحْفَة: حوض کے کناروں پر بچا ہوا پانی۔ الجُحاف: ہیضہ کے اسہال۔ (مَجْحُوف: ہیضہ میں مبتلا)۔ الجُحاف: سب کچھ بہا لیجانے والا۔ ہم کہتے ہیں: موتٌ جُحاف و سیل جُحاف: سب کچھ لیجانے والی موت، سب کچھ بہا لیجانے والا سیلاب۔ المُجْحِفَة: مصیبت۔

۲۔ جَحَفَ – جَحْفًا ہ بِرِجْلِه: کو لات مارنا۔

۳۔ جَحَفَ – جَحْفًا معه و له علی غیره: مائل ہونا، جھکنا۔ أَجْحَفَ فلانٌ بعبده: اپنے غلام کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کام دینا۔ اِجْتَحَفَ ہ: کو لوٹنا۔ الإِجْحَاف: ناانصافی، ظلم، تعصب، میلان خاطر۔ جمع اجحافات: کہتے ہیں هذا إجحاف بحقه: یہ اس کے حق سے ناانصافی ہے۔ مُجْحِفٌ بِحَقِّهِ: کے حق کو سخت نقصان دہ۔

۴۔ جاحَفَ ہ: کی مزاحمت کرنا۔ — عنه: کی مدافعت کرنا۔ تَجَاحَفوا: لاٹھیوں اور تلواروں سے لڑنا۔ — بالکُرَةِ: گیند کو بلے سے ایک دوسرے سے چھیننا۔ الجحاف: لڑائی، جنگ۔

۵۔ جَحْفَلَ جحفلةً ہ: کو پچھاڑنا، پھینکنا، دھمکانا، تنبیہ کرنا۔ تَجَحْفَلوا: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الجَحْفَل جمع جَحَافِل: لشکر جرار۔ — من الرجال: بڑی قدر والا آدمی، بڑے مرتبے اور درجے والا آدمی۔ الجَحْفَلة: کھر والے جانور کا ہونٹ۔

○ جَحَفَ – جَحْفًا ہ: کی چھال اتارنا، کو کھرچ کر اتارنا، یا صاف کرنا، چھیلنا، چھیل کر ہموار یا صاف کرنا، کو بہا لیجانا۔ — مع: کے لئے تعصب رکھنا، کی حمایت کرنا۔ أَجْحَفَ ب: کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، زخمی کرنا، (مقدمہ، دعوی) کو نقصان پہنچانا، (کسی پر) اثر ڈالنا، اثر انداز ہونا، کو تباہ کرنا، برباد کرنا، (کسی پر) ظلم کرنا۔ مُجْحِف: بے انصاف، غیر منصفانہ، جانبدار، غیر منصف، غیر منصفانہ، متعصب، متعصبانہ۔

○ جَحْفَل جمع جَحَافِل: انبوہ، ازدحام، بہت بڑی تعداد، لشکر جرار، کور (ڈویژن فوج)، ممتاز آدمی۔

جحل: ۱۔ جَحَلَ – جَحْلًا و جَحَّلَ ہ: کو پچھاڑنا۔

۲۔ الجَحْل جمع جُحُول و جِحْلان: گوہ کا بچہ۔ نر شہد کی مکھی، بھونورا، گرگٹ۔ — جمع جِحال: بڑی مشک۔ کہا جاتا ہے رجلٌ جَحْلٌ: کشادہ پیشانی والا موٹا آدمی۔ الجُحال: زہر۔ الجَیْحَل: پہاڑ، بڑی چٹان، ہر بڑی چیز۔

جحم: ۱۔ جَحَمَ – جَحْمًا النارَ: آگ بھڑکانا۔ جَحِمَ – جَحَمًا و جَحْمًا جَحُمَ – جُحُومًات النارُ: آگ کا جلنا۔ أَجْحَمَتُ النارُ: آگ کا تیز بھڑکنا۔ تَجَحَّمَ: حرص و بخل سے جلنا، تنگ ہونا۔ الجَاحِم (فا): دہکتی ہوئی چنگاری۔ — من الحرب: سخت جنگ، گھمسان کی لڑائی۔ کہا جاتا ہے: نارٌ جَاحِمَةٌ: تیز آگ۔ الجحیم: گڑھے میں سخت دہکتی ہوئی آگ، سخت گرم جگہ، جہنم۔ جُحْمَة جمع جُحَمُ النار: آگ کی بھڑک۔

۲۔ جَحَمَ – جَحْمًا العینَ: آنکھ کھولنا۔ جَحَّمَ ہ بعینه: کو گھورنا، تیز نگاہ سے دیکھنا۔ الجاحِمة: ٹکٹکی لگانے والی آنکھ۔ الجُحَام (طب): آنکھوں کا ورم۔ الأَجْحَمَ مونث جَحْمَاء جمع جُحْم و جُحُم و جَحْمَی: سرخ آنکھوں والا، سوجی ہوئی آنکھوں والا۔

۳۔ جَحَمَ – جَحْمًا ہ عن الأمر: کو کسی بات سے

روکنا، باز رکھنا۔ أَجْحَمَ عن الامر: سے رکنا باز رہنا۔

۴۔ الجَحْمَرِش جمع جَحَامِر۔ تصغیر جُحَيْمِر: بہت بوڑھی عورت، بدصورت عورت، موٹا خرگوش۔

○ جَحِيم: (مونث، نیز مذکر): آگ، جہنم کی آگ، جہنم۔ جَحِيمِيّ: جہنمی، دوزخی، جہنم، دوزخ کا۔

جحن: ۱۔ جَحَنَ جَحْنًا و أَجْحَنَ و جَحَّنَ: غربت یا کنجوس کے سبب بال بچوں کو روزی کی تکلیف میں ڈالنا۔

۲۔ جَحِنَ جَحَنًا الصبيُّ: خوراک کی خرابی کی وجہ سے بچہ کا کمزور ہونا صفت جَحِن۔ أَجْحَنَه: کو بری خوراک دینا۔ الجَحِن: دیر میں جوان ہونے والا۔ ــ من النبات: کمزور اور چھوٹا پودا۔

جحا: ۱۔ جَحَا جَحْوًا: چلنا۔ الجَحْوَة: ایک قدم۔

۲۔ جَحَا جَحْوًا بالمكان: کسی جگہ رہنا۔

۳۔ جَحَا جَحْوًا فلانًا و الشيءَ: کسی کی بیخ کنی کرنا، کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑنا۔ اِجْتَحَى اجتحاءً ہ (اجتاحہ کی طرح): کو جڑ سے اکھیڑنا، کی بیخ کنی کرنا۔

جخ: جَخَّ جَخًّا: لیٹنا، بدن کو ڈھیلا چھوڑ دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ ایسے کپڑے وغیرہ استعمال کرنا جن پر فخر کرے، فاخرہ لباس وغیرہ استعمال کرنا۔ اسم الجَخَّة (عام زبان میں)۔ ــ برِجْلِه: پاؤں سے خاک اڑانا۔

○ جَخَّ: حکم چلانا، دون کی لینا، شیخی بگھارنا، بننا، ڈینگ مارنا، بڑ ہانکنا، اچھی پوشاک پہننا، اچھے کپڑے پہننا (کسی حد تک طنز آمیز)۔ جَخَّاخ: شیخی بگھارنے والا، ڈینگیں مارنے والا، بڑ ہانکنے والا، شیخی خورہ۔

جخر: جَخَرَ جَخْرًا و جَخَّرَ البئرَ: کنویں کو کشادہ کرنا، وسیع کرنا۔ جَخِرَ جَخَرًا جوفُ البئر: کنویں کا کشادہ ہونا۔ تَجَخَّرَ الحوضُ: حوض کا پانی خشک ہو کر اس کی مٹی کا ترخ جانا۔ الجَخِر: بسیار خور، بزدل۔

جخف: جَخَفَ ـِ و جَخِفَ جَخْفًا و جَخَفًا و جَخِيفًا: اپنی حد سے زیادہ فخر کرنا صفت جَخَّاف: الجَخِيف: متکبر۔ نفس و روح (آپ کہتے ہیں: وقع ذلك في جَخِيفي: یہ بات میرے دل میں آئی)۔ انسان کے پیٹ کی آواز، بھاری لشکر، بہت۔

جخا: جَخَا جَخْوًا الكوزَ: کوزہ کو اوندھا کرنا۔ جَخَّى و تَجَخَّى الكوزُ: کوزے کی چیزوں کا اوندھا ہونا، جھکنا۔ ــ الشيخُ: بوڑھے کا کبڑا ہونا۔

جَخَّى الليلُ: رات کا گذر جانا۔

جد: ۱۔ جَدَّ جَدًّا الشيءَ: کو کاٹنا۔ الجُدّ: ہر چیز کا کنارہ، چیز کو کاٹنے کی جگہ، ساحل سمندر۔ الجَدّ: دریا کا کنارہ۔ الجِدَّة: دریا کا کنارہ۔ الجَدِيد و المَجْدُود: کٹا ہوا۔ الجَداد و الجِداد: کھجور توڑنا۔ جُدادَة النخلِ وغيرِه: کھجور وغیرہ کا جڑ سے اکھڑا ہوا درخت۔

۲۔ جَدَّ جِدًّا في الامر: کام میں جلدی کرنا۔

۳۔ جَدَّ جَدًّا به الامرُ: سے کام کا سخت ہونا۔ جَدًّا في اعين القوم: قوم کی نظروں میں بڑا ہونا۔

۴۔ جَدَّ جِدًّا: کوشش کرنا۔ ــ في الامر: ثابت کرنا، اہتمام کرنا۔ اَجَدَّ في الامر: کسی معاملہ میں سنجیدگی اختیار کرنا، کوشش کرنا۔ ــــ الامرَ: کسی امر کی خوب تحقیق کرنا، کو مضبوط کرنا۔ الجِدّ (مص): کوشش، سنجیدگی، پوری تحقیق کو پہنچا ہوا۔ کہا جاتا ہے: عذابٌ جِدٌّ: سخت ترین عذاب۔ فلانٌ عالِمٌ جِدُّ عالِمٍ: فلاں شخص چوٹی کا عالم ہے۔ عظيمٌ جِدًّا: بہت بڑی عظمت رکھنے والا۔ (جِدًّا کا نصب مصدریت کی وجہ سے ہے)۔ الجادّ: محنتی، سنجیدہ۔ الجادَّة جمع جَوادّ: جاد کا مونث۔

۵۔ جَدَّ جَدًّا و جُدًّا: صاحب نصیب ہونا صفت: مَجْدُود: کہا جاتا ہے: جُدِدْتَ یا فلان: اے فلاں تو خوش قسمت ہو گیا۔ الجُدّ: خوش قسمتی (کہا جاتا ہے: فلان ذو جُدٍّ في كذا: فلاں اس معاملہ میں صاحب نصیب ہے)۔ ــــ و الجُدِّيّ: بڑی قسمت والا۔ الجَدّ: خوش قسمتی، بزرگی، عظمت، رزق۔ کہا جاتا ہے: عَثَرَ جَدُّه او تَعِسَ جَدُّه: وہ ٹوٹے میں رہا یا ہلاک ہو گیا۔ الجَدِيد و المَجْدُود: نصیبہ ور۔

۶۔ جَدَّ جِدَّةً الثوبُ: کپڑے کا نیا ہونا۔ جَدَّدَ و اَجَدَّ الشيءَ: کو نیا کرنا۔ تَجَدَّدَ: نیا ہو جانا۔ اَجَدَّ ثوبًا: نیا کپڑا پہننا۔ اِسْتَجَدَّ الشيءُ: نیا ہونا۔ ــ الشيءَ: کو نیا کرنا یا نیا پانا۔ ــــ الثوبَ: نیا کپڑا پہننا۔ جِدَّةُ الثوب: کپڑے کا نیا ہونا۔ الجَدِيد مونث جَدِيد و جَدِيدَة جمع جُدُد: نیا۔ الجديدان و الاَجَدّان: رات اور دن۔ (ان کا استعمال تثنیہ کی شکل میں ہے۔ تنہا دن یا رات کے لئے جدید یا اجد نہیں کہہ سکتے) اس سے ہے: لا افعله ما اختلف الجديدان: جب تک دن رات ایک دوسرے کے بعد آتے رہیں گے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ المُجَدَّد (مفع) [illegible]: مختلف قسم کی دھاریوں والا کپڑا۔

۷۔ جَدَّ جَدًّا الثديُ او الضرعُ: پستان یا تھن کا دودھ خشک ہو جانا۔ صفت اَجَدّ: ایسی اونٹنی کی صفت: جَدَّاء: کہا جاتا ہے سَنَةٌ جَدَّاءُ: قحط کا سال۔

۸۔ اَجَدَّ الطريقُ: راستہ کا سخت اور ہموار ہونا۔ ــــ الرجلُ: سخت اور ہموار راستہ پر چلنا۔ الجَدَد جمع أَجْداد: سخت اور ہموار زمین (اسی سے ضرب المثل ہے: مَن سلكَ الجَدَدَ اَمِنَ العِثار: جو سخت اور ہموار زمین پر چلتا ہے وہ ٹھوکر سے محفوظ رہتا ہے)۔ الجادَّة جمع جَوادّ: سڑک کا بیچ، شاہراہ جس کے دونوں جانب درخت ہوں۔

۹۔ جادَّ مُجادَّةً في الامر: کے خلاف کسی معاملہ پر مقدمہ دائر کرنا، دعوی کرنا۔

۱۰۔ الجُدّ: بہت پانی والا کنواں، کم پانی والا کنواں (ضد)، صحرا کے کنارہ پر تھوڑا سا پانی۔ الجَدّ جمع اَجْداد و جُدُود و جُدُودَة م جَدَّة جمع جَدّات: دادا، نانا۔ الجُدَّة جمع جُدَد: نشان، طریقہ۔ کہا جاتا ہے: رَكِبَ جُدَّةَ الامر او جُدَّةً من الامر: کسی معاملہ میں رائے رکھنا۔ الجَدَد جمع اَجْداد: باریک ڈھلواں ریت۔ الجُدَّة: کتے کے گلے کا پٹہ، کپڑے کا ٹکڑا۔ الجَدِيد مونث جَدِيد و جَدِيدَة جمع جُدُد: ایک قسم کا پرانا سکہ جو ۹ پاروں کے برابر تھا۔ الجُداد: آپس میں الجھے اور گٹھے ہوئے ڈورے یا شاخیں۔

۱۱۔ الجَدْجَد جمع جَداجِد: سخت اور ہموار زمین۔ الجُدْجُد جمع جَداجِد (ج): جھینگر۔

○ جَدَّ جِدًّا: نیا ہونا، نئی صورت حال ہونا، حال ہی میں واقع ہوا ہونا، حال ہی میں حقیقت بن چکا ہونا (حالات۔ لاگتوں کا) نئے عامل کے طور پر شامل ہونا، اچانک طور پر آ پڑنا، داخل ہونا۔ (سٹیج پر) پہلی بار نمودار ہونا، تشویشناک، سنگین ہونا، یا ہو جانا، اہم ہونا، معنی خیز ہونا، وزنی یا بھاری بھر کم ہونا۔ ــــ في: کو سنجیدگی سے لینا، کے لئے سنجیدگی سے سخت کوشش یا جدوجہد کرنا، کو کرنے کے لئے خاص احتیاط کرنا، تکلیف اٹھانا، میں ہر کوشش کرنا، کے بارے میں سنجیدہ ہونا، واقعی ہونا، کرنے کا ارادہ ہونا، تیز قدمی کرنا۔

جَدَّدَہ: کو نیا بنا دینا، کی تجدید کرنا، کو دوبارہ کرنا، کو نئے تقاضوں کے مطابق بنانا، مرمت سے بالکل پہلا سا بنا دینا یا ٹھیک ٹھاک کرنا، کو دوبارہ چکانا۔ جَدَّدَ: نئی بات کرنا، نیا خیال رائج کرنا، مصلح ہونا، کی چیز کو نمایاں طور پر نیا یا انوکھا کر کے لانا، نیا بنانا۔ ــــ ہ: کو دوبارہ جوان بنانا، کا اعادہ شباب کرنا، کی روح کو بیدار کرنا، کو نئی زندگی عطا کرنا، پھر سے پیدا کرنا، کو مزید دلکش بنانا۔

زیادہ خوشگوار بنانا، (پرمٹ وغیرہ کی) تجدید کرنا، کی مدت بڑھانا، کسی چیز کو از سرنو شروع کرنا، دہرانا، میں نیا آغاز کرنا۔ جَدَّدَ حظَّهُ: اپنی قسمت کو ایک بار پھر آزمانا۔ جَدَّ: سخت کوشش کرنا، جدو جہد کرنا، کوشش کرنا، بڑی محنت اور کوشش سے کوئی کام کرنا۔ فی: کو سنجیدگی، محنت اور تندہی سے کرنا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا، پر تلا ہوا ہونا، تیز قدمی کرنا۔ ہ: کی تجدید کرنا، کو نیا بنانا۔ تَجَدَّدَ: نیا ہو جانا، کی تجدید ہو جانا، پھر سے پیدا ہونا۔ اِسْتَجَدَّ: نیا ہونا، نئے عامل کے طور پر شامل یا داخل ہونا، نئے انداز سے وجود میں آنا۔ ہ: کو نیا بنانا، کی تجدید کرنا۔ جَدّ جمع جُدُود: خوش قسمتی، خوش نصیب۔ جِدّ: سنجیدگی، سرگرمی، مشقت، محنت، تندہی، جاں فشانی، شوق۔ جِدًّا: بہت، زیادہ۔ بِجِدٍّ من جِدٍّ: سنجیدگی سے، متانت سے۔ جِدُّ باهِظٍ: بہت گراں (قیمت)۔ جِدُّ عظیم: بہت بڑا۔ یختلفون جدَّ الاختلاف: وہ بہت اختلاف کرتے ہیں۔ وَقَفَ علی ساق الجِدّ: تندہی سے کوئی کام کرنا، میں بڑی محنت اور کوشش کرنا، کے لئے ہر کوشش کر ڈالنا۔ جِدِّی: سنگین، سنجیدہ، درپے، سچ مچ کوشاں۔ جِدِّیًّا: دل سے، واقعی، سنجیدگی سے، متانت سے۔ جِدِّیَة: سنجیدگی، سرگرمی، (صورت حال کی) تشویشناکی، شدت، اہمیت۔ جِدَّة: نیا ہونا، تازگی، نیا پن، انوکھا پن، نیا ہونا، موجودہ زمانہ کا ہونا، جدت پسندی، نو پسندی۔ جُدَّة: جِدَّہ: (بحر احمر پر مغربی سعودی عرب کی بندرگاہ)۔ جَدِید جمع جُدُد و جُدَد: نیا، حالیہ، حال، قریب زمانہ کا، تجدید کیا ہوا، عصر حاضر کا، انوکھا، بے مثال، جس کی کوئی نظیر موجود نہ ہو۔ الجدیدان: دن اور رات۔ مِن جدید: نئے سرے سے، از سرنو۔ جدید لَنْج: بالکل نیا۔ اَجَدّ: زیادہ سنجیدہ، زیادہ سنگین، زیادہ مشتاق، زیادہ سرگرم، زیادہ نیا، زیادہ حال کا، زیادہ قریب زمانہ کا۔ تَجْدِید: تجدید، (پرمٹ وغیرہ کی) تجدید، نئی چیز کی تخلیق، ایجاد، نئی پیشکش، نئی پیش کش (تھیٹر)، تنظیم نو، اصلاح، نئے زمانہ کے مطابق بنانا، درستی، ترمیم، تجدید، بحالی، واگزاشت، احیاء، نئے نمونے پر بنانا، از سرنو بنانا، نئی طرز پر تشکیل کرنا، مرمت از سرنو درست کرنا، چالو حالت میں لانا، دوبارہ صیقل کرنا، چمکانا۔ تجدید شباب، اعادۂ شباب، نئی زندگی، نیا جنم — جمع تجدیدات: ایجادات، اختراعات، جدتیں، بدعتیں، نئی کامیابیاں، نئے کارہائے نمایاں۔ تَجَدُّد: تجدید، نئی زندگی، نیا جنم، احیاء، اعادہ، حیات نو، دوبارہ رواج پانا۔ جَادّ: جوشیلا، تمنائی، آرزومند، دل سے، واقعی، سنجیدہ۔ جَادَّة جمع جَادَّات و جَوَادّ: بڑی سڑک، سڑک۔ مَجْدُود: خوش قسمت، خوش نصیب۔ مُجَدِّد: تجدید کرنے والا، نئی راہ نکالنے والا، ایجاد کرنے والا، مصلح۔ مُجَدَّد: تجدید کیا ہوا، مدت بڑھایا ہوا، نئے نمونے پر مرتب شدہ، مرمت کیا ہوا، نئے سرے سے تشکیل دیا ہوا، از سرنو درست کیا ہوا، بحال کیا ہوا، اعادۂ شباب کیا ہوا، دوبارہ پیدا کیا ہوا، نیا جنم دیا ہوا، پستی سے ابھارا ہوا، نیا، حالیہ، حال کا، قریب زمانہ کا، جوان۔ مُتَجَدِّد: نیا، حالیہ، حال کا، ابتدائی، ابتدائی منزل میں۔

جدب: اجَدَبَ جَدْبًا و جَدُبَ جُدُوبَةً و تَجَدَّبَ المكانُ: کسی جگہ کا بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو جانا۔ صفت جَدْب و أَجْدَب و جَدِیب و جُدُوب و مَجْدُوب۔ اَجْدَبَ المكانُ: بارش نہ ہونے کی وجہ سے کسی جگہ کی زمین کا خشک ہو جانا — القومُ: قوم کا قحط زدہ ہونا — الارضَ: زمین کو خشک پانا — فلانًا: کسی شخص کے پاس جا کر مہمان داری نہ پانا۔ الجَدْب (مص) مونث جَدْبَة جمع جُدُوب: قحط سالی۔ کہا جاتا ہے: مكانٌ جَدْبٌ: قحط زدہ مقام۔ أَرَضُون جُدُوبٌ و أَرَضُون جَدْبٌ: قحط زدہ زمینیں۔ الجَدُوب و الجَدِیب: قحط زدہ۔ الجَدْباء من الأراضی: قحط زدہ زمین۔ المِجْداب جمع مَجَادِب (یاء محذوف کے ساتھ) من الأراضی: بنجر زمین۔ الأجادِب: زمینیں جن میں کوئی روئیدگی نہ ہو۔ المَجْدُوب: قحط زدہ جگہ۔

۲جَدَبَ جَدْبًا فلانًا: پر عیب لگانا۔ تَجَدَّبَ: عیب دار ہونا۔ الجَدْب: عیب۔

۳جَدَّبَ ہ: کو کمزور کرنا۔

○ جَدُبَ جُدُوبَةً: مٹی کا خشک، بے آب و گیاہ یا بنجر ہونا یا ہو جانا۔ اَجْدَبَ: امساک باراں، غربت یا کال جھیلنا، برداشت کرنا، بنجر ہونا، کچھ نہ بننا، ناکام رہنا، مکمل طور پر جل جانا، ناکامی پر منتج ہونا، کوئی قیمتی چیز پیچھے نہ چھوڑنا، بے اثر رہنا، اثر نہ کرنا، ٹائیں ٹائیں فش ہونا۔ جَدْب: قحط سالی، خشک سالی، امساک باران، بنجر پن، بانجھ پن، غیر زرخیزی، بنجر، بانجھ، کلر، شور۔ جَدِیب و اَجْدَب مونث جَدْباء: بنجر، بانجھ۔ مُجْدِب: بنجر، بانجھ، خشک، بے برگ و گیاہ، سنسان، ویران، غیر آباد، غیر پیداواری، جو کچھ پیدا نہ کرے، غیر زرخیز، بے منفعت، بے سود، غیر نفع بخش۔

جدث: اِجْتَدَثَ: قبر بنانا۔ الجَدَث جمع اَجْداث و اَجْدُث: قبر، گور، تربت، مزار، مقبرہ گنبد۔

○ جُدْجُد جمع جَدَاجِد: جھینگر۔

جدح: اجَدَحَ جَدْحًا و أَجْدَحَ و اجْتَدَحَ السویقَ: ستو گھولنا۔ کہتے ہیں: جَدَحَ جُوَيْنٌ مِن سویق غیرہ: جوین نے دوسرے کے ستو گھولے۔ اردو میں اس ضرب المثل کی ہم معنی ضرب المثل یہ ہے: حلوائی کی دوکان اور داداجی کی فاتحہ۔ یہ ضرب المثل ایسے شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو دوسروں کے مال سے سخاوت کرتا ہو۔ جَدَّحَ ہ: کو ملانا، خلط ملط کرنا۔ المِجْدَح: ستو وغیرہ گھولنے کا آلہ۔

۲المِجْدَح (فلک): ستارہ۔ مَجَادِیحُ السماء: نچھتر۔ اس کا واحد مجدح ہے۔ کہا جاتا ہے: ارسلت السماءُ مجادیحَ الغیث: آسمان نے بارش کے نچھتروں کو آزاد چھوڑ دیا۔ المِجْدَاح: ساحل سمندر۔

جدر: اجَدُرَ جَدَارَةً بکذا: کے لائق و اہل ہونا۔ صفت: جدیر۔ جَدَّرَ تَجْدِیرًا ہُ: کو اہل و لائق بنانا۔ جَدِیر جمع جَدِیرُون و جُدَرَاء مونث جَدِیرَة جمع جَدِیرات و جدائر بکذا او لکذا: کے لائق، کے اہل۔ الجَدِر جمع جَدِرُون بالشیء و له: کے لائق، کے مناسب۔ المَجْدَرَةُ: لائق، اہل۔ کہا جاتا ہے: انه مَجْدَرَةٌ لأن یفعل کذا: وہ ایسا کرنے کا اہل ہے۔ (اس میں مذکر، مونث، مفرد اور جمع یکساں ہیں)۔ المَجْدُور: لائق، اہل۔ کہا جاتا ہے: انه مَجْدُورٌ بان یفعل کذا: وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔

۲جَدَرَ جَدْرًا الرجلُ: دیوار کی اوٹ میں ہو جانا — الجدارَ: کو دیواروں سے گھیرنا۔ جَدَّرَ و اجْتَدَرَ الحائطَ: دیوار بنانا اور اس پر پلستر کرنا۔ الجَدْر جمع جُدْران و الجدار جمع جُدُر و جُدْر: دیوار۔ الجُدْرانِیَّة جمع جُدْرانِیّات: (ف ج) چھوٹے نقوش اور تصویروں والے قالین جو دیواروں پر لٹکائے جاتے ہیں۔

۳جَدَرَ جَدْرًا و جُدِرَ و جُدِّرَ: کو چیچک نکلنا۔ صفت مَجْدُور و مَجَدَّر۔ جَدَرَ و جَدُرَ جَدَارَةً و جَدَّرَ و أَجْدَرَ النبتُ و الشجرُ: پودے اور درخت پھوٹنا، کونپلیں نکالنا (مجازی معنی)۔ الجُدَرِیّ و الجَدَرِیّ (طب): چیچک۔ الجُدَر و الجَدَر: واحد جُدَرَة و جَدَرَة: پھنسیاں، جلد پر چوٹ یا زخم کے نشان۔ المُجَدَّر مونث المُجَدَّرة (طب): چیچک میں مبتلا۔ (ط) مسور اور چاول یا ماش

اور چاول سے پکایا ہوا کھانا۔ المَجْدُور (طب): چیچک میں مبتلا۔ اَرضٌ مَجْدَرَةٌ: بہت چیچک والی زمین، وہ ملک جہاں چیچک کی وبا پھیلی ہوئی ہو۔

۴۔ الجَدْر و الجِدْر جمع جُدُور واحد جَدْرَة و جِدْرَة: ایک قسم کی ریتلی نبات۔ المَجْدُور: کم گوشت والا۔ المِجْدار: پرندوں اور جنگلی جانوروں کو ڈرانے کے لئے کھیتوں میں نصب ڈراونا پتلا۔ اسے فَزَّاعَة بھی کہتے ہیں۔

○ جَدُرَ -جَدَارَةً ب: کے لئے موزوں و مناسب ہونا، کو پھبنا، کے شایانِ شان ہونا، کو زیب دینا، کے لائق ہونا، کے قابل ہونا، کا مستحق یا حق دار ہونا، سزاوار ہونا۔ يَجْدُرُ ذِكْرُه و يَجْدُرُ بالذكر: قابلِ ذکر۔ جَدِير جمع جديرون و جدراء ب: کا مستحق، کے لئے موزوں، مناسب، برجستہ، برمحل، کے مطابق۔ جديرٌ بالذكر: قابلِ ذکر۔ اَجْدَر: زیادہ حقدار، زیادہ مستحق، زیادہ مناسب، زیادہ موزوں، زیادہ برجستہ، زیادہ برمحل، زیادہ شایان۔ جَدارَة: اہلیت، قابلیت، موزونیت، صلاحیت، مناسبت، لیاقت، استعداد۔ جُدُر و جِدار جمع جُدُر و جُدْران: دیوار۔ جِداری: دیوار کا، دیواری۔ جُدِرَ و جُدِّرَ: ... میں مبتلا ہونا، کو چیچک ہونا۔ جُدَرِيّ: چیچک۔ مَجْدُور و مُجَدَّر: چیچک میں مبتلا، چیچک کے دانوں والا۔ مُجَدَّرَة: چاول، مسور کی دال، پیاز اور تیل سے پکایا ہوا کھانا۔

حدع: ۱۔ جَدَعَ -جَدْعًا الانفَ و ماشاكلَهُ: ناک یا ہونٹ وغیرہ کاٹنا۔ کہا جاتا ہے: لِأمرٍ مَا جدع قصيرٌ انفَهُ: قصیر نے اپنی ناک کسی خاص مصلحت سے کاٹی۔ یہ ضرب اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو اپنی خواہش کے حصول کے لئے سخت مشقت پر اپنے دل کو اکسائے۔ جَدِعَ -جَدَعًا الرجلُ: کی ناک کٹ جانا، صفت: أَجْدَع مونث جَدْعَاء جمع جُدْع۔ جَادَعَ مُجَادَعَةً و جِدَاعًا هُ: کو گالیاں دینا، سے جھگڑا کرنا۔ تَجَادَعَا: ایک دوسرے سے جھگڑنا ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔ کہتے ہیں: تركتُ البلادَ تتجادعُ افاعِيها: میں نے ملک کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہاں کے اشرار ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ الجَدَعَة: کٹنے کے بعد عضو کا بچا ہوا حصہ، کٹنے کی جگہ۔ المِجْدَاع: عضو کاٹنے کا اوزار۔

۲۔ جَدَعَ -جَدْعًا فلانًا: کو محبوس کرنا، قید کرنا۔ —— الرجلُ عيالَهُ: اپنے بال بچوں کے نان نفقہ کو روک لینا۔ جَدَّعَ ہ: کسی سے جَدْعًا لكَ کہنا: یعنی کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو عیب دار کرے اور خیر تجھ سے روک دے۔ (مفعول مطلق کی وجہ سے منسوب ہے)۔ جَدَاعِ (قطامِ کے وزن پر) سخت سال۔ کہا جاتا ہے: اجحفت بهم جَدَاعِ: ان کو قحط سالی نے برباد کر دیا۔

۳۔ جَدِعَ -جَدَعًا: کی خوراک کا برا ہونا صفت: جَدِع۔ جَدَعَ -و جَدَّعَ و أَجْدَعَ الولدَ: بچہ کو بری خوراک دینا۔

○ حَدَعَ -جَدْعًا ہ: کو کاٹ دینا، قطع کرنا (خصوصاً کسی عضو کو)۔ بِجَدْعِ الأنفِ: کسی قیمت پر، بلا لحاظ کسی قربانی کے۔ اَجْدَع: کٹے ہوئے عضو والا۔ حَدَع (= جَذَع) جمع جِدْعَان: نوجوان، نوجوان ساتھی، روادار، دبنگ آدمی۔

حدف ۱۔ جَدَفَ -جُدُوفًا الطيرُ: پرندے کا کٹے ہوئے پروں سے اڑنا۔ —— الرجلُ: تیز چلتے ہوئے ہاتھ ہلانا۔ جَدْفًا المَلّاحُ السفينةَ: ملاح کا کشتی کو چپو سے کھینا۔ جَدَفَ المَلّاحُ: ملاح کا چپو سے ڈونگا چلانا۔ المِجْدَاف جمع مَجَادِيف: چپو۔ مِجْدافا الطَيرُ: پرندے کے دونوں بازو۔

۲۔ جَدَفَ -جَدْفًا الشيءَ: کو کاٹنا۔ —— الظبيُّ: ہرن کا چھوٹے قدم سے چلنا۔ ظِباء جوادف: چھوٹے قدموں سے چلنے والی ہرنیاں۔ جُدِفَ عليه: تنگی میں مبتلا کیا جانا۔ اسی سے ہے: إنَّهُ لَمُجَدَّفٌ عليه العيشُ: وہ تنگی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ مَجْدُوف: کٹا ہوا، چھوٹا، کہا جاتا ہے: رجل مجدوفُ اليدِ: کٹے ہاتھ والا یا چھوٹے ہاتھ والا۔ هو مجدوف الازار او القميص: وہ چھوٹے ازار یا قمیض والا ہے۔ مجدوف اليدَين: کنجوس۔

۳۔ جَدَفَ -جَدْفًا تِ السماءُ بالثلجِ: آسمان کا برفباری کرنا۔

۴۔ جَدَّفَ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ (کہا جاتا ہے: لا تُجَدِّفُوا بنعم الله: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو)۔ —— على الله: اللہ تعالیٰ کے متعلق کفر اور توہین آمیز باتیں کرنا۔ التَجْدِيف جمع تَجَادِيف: اللہ تعالیٰ کے متعلق کفر اور توہین آمیز کلام۔

۵۔ اَجْدَفَ القومُ: چلانا، شور مچانا۔ الجَدَفَة: شور و غل، شور شغب۔

۶۔ الجُدافى و الجَدَافاء: غنیمت۔

○ جَدَّفَ على (کسی شخص) پر لعنت بھیجنا، کو بد دعا دینا، ... کرنا۔ (اللہ تعالیٰ) کی شان میں گستاخی کرنا، کفر بکنا۔ تجديف: لعنت، بددعا، کلمہ کفر، دین کی مذمت۔ جَدَفَ -و جَدَّفَ ہ: (کشتی) چلانا، کھینا، چپو چلانا۔ مِجْداف جمع مَجَادِيف: چپو، ناؤ کھینچنے کا ڈنڈا۔

جدل: ۱۔ جَدَلَ -جُدُولاً الشيءُ: سخت ہونا، مضبوط ہونا، صفت: جَدِل و جَدْل۔ —— -جَدْلاً و جَدِلَ - جَدَلاً الحبُّ: دانہ کا خوشہ میں سخت ہونا۔ —— الولدُ: بچہ کا قوی اور سخت ہڈی والا ہونا۔ الجَدْل جمع جُدُول (مص): سخت، عضو۔ الجَدْلَة: ہاون کا دستہ، ہاون کی موصلی۔ الجَدِيلة: رائے کی پختگی۔ الأَجْدَل و الأَجْدَلِيّ جمع اَجَادِل: شکرا۔

۲۔ جَدَلَ -جَدْلاً الحبلَ: رسی بٹنا۔ جَدَلَ الشعرَ: بالوں کو گوندھنا۔ الأَجْدَل: بٹا ہوا۔ کہا جاتا ہے: ساعِدٌ أَجْدَل: خوبصورت گٹھی ہوئی کلائی۔ الجَدِيل جمع جُدُل: بٹی ہوئی رسی۔ جُدُلُ الإنسان: انسان کے ہاتھ پیر کی کھوکھلی ہڈی۔ الجَدِيلَة: طریقہ، (کہا جاتا ہے: عَمَلَ على جَدِيلَتِهِ: اس نے اپنے طریقہ پر کام کیا)۔ گندھے ہوئے بال، چوٹی، بالوں کی لٹ۔ جَدَالَةُ الخَلْقِ: عضو کی خوبصورتی۔ المَجْدُول: بٹا ہوا، مضبوط بٹا ہوا۔ کہا جاتا ہے: رجل مَجْدُول: مضبوط اور خوبصورت آدمی۔ جَدْلاء جمع جُدْل: مضبوط۔

۳۔ جَدِلَ -جَدَلاً الرجلُ: سخت جھگڑالو ہونا۔ جَادَلَ جِدالاً و مُجَادَلَةً ہ: سے جھگڑنا، جھگڑا کرنا۔ تَجَادَلا: ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا۔ الجَدَل: جھگڑا، جھگڑے میں مہارت، بحث، بحثا بحثی، مباحثہ، مناقشہ، قیل و قال، مشہور اور مسلمہ مقدمات پر مشتمل قیاس۔ جیسے آپ کہیں: فلان يطوف في الليل فهو لِصٌّ: چونکہ فلاں شخص رات کو ادھر ادھر پھرتا ہے اس لئے وہ چور ہے۔ الجَدِل و الجَدّال و المِجْدَل و المِجدال: بہت جھگڑالو۔

۴۔ جَدَلَ -جَدْلاً و جَدَّلَ ہ: کو زمین پر گرا دینا۔ تَجَدَّلَ و اِنْجَدَلَ: زمین پر گر پڑنا۔ الجَدَالَة: زمین۔

۵۔ الجَدِيلَة: قبیلہ، گوشہ۔ المِجْدَل جمع مَجَادِل: محل۔ المَجْدَل: لوگوں کی جماعت۔ الجَدْوَل و الجِدْوَل جمع جَداوِل: چھوٹی نہر، راجباہا۔ منطقی قضیوں کی شکل جیسے حساب میں جدول الضرب (پہاڑہ) کہا جاتا ہے: استقام جدول القوم: قوم کا کام انتظام پذیر ہوا۔

○ جَدَلَ -جَدْلاً ہ: (رسی) کو مضبوط بٹنا، مضبوط کرنا،

پھیلانا، (بالوں) کو گوندھنا، (کی) چوٹی یا چٹیا کرنا۔
جَدَّلَ ہ: کو گوندھنا، (ڈورے) بٹنا، ڈوری لگانا۔
جَادَلَ ہ: سے جھگڑنا، سے حجت کرنا، بحث کرنا، تکرار کرنا، نوک جھوک کرنا، بحث و تمحیص کرنا، کٹ حجتی کرنا، مباحثہ کرنا، استدلال کرنا ـــ فی: پر مناظرہ کرنا، کو زیر بحث لانا، پر اعتراض کرنا، کے خلاف دلیل پیش کرنا۔ تَجَادَلَ: جھگڑا کرنا، مناظرہ کرنا، مباحثہ میں حصہ لینا۔ جَدَل: جھگڑا، حجت، مناظرہ، استدلال، بحث مباحثہ، نزاع، بحث۔ فَرَضَ جَدَلاً: بحث کی خاطر فرض کرنا، بحث کی بنیاد کے طور پر تجویز کرنا۔
جَدَلِی: نزاعی، تکراری، متنازع فیہ، حجتی، جھگڑالو، مناظرہ پسند، بحث کرنے والا، تکرار کرنے والا۔
جَدَّال و مِجْدال: حجتی، بحث کرنے والا، جھگڑالو، مناظرہ پسند، منطق چھانٹنے والا، منطقی، بحث کا شوقین۔ مِجْدَل جمع مَجَادِل: فرش کا پتھر، پتھر کا فرش، فرش کرنے کے لئے پتھر کی سلیں۔ جِدَال و مُجَادَلَة جمع مُجَادَلات بمعنی جَدَل۔ لا یَقْبَلُ الجِدَال: ناقابل تردید، حتمی، یقینی۔ لاجِدَالَ و بلا جِدَالٍ: یقینی طور پر، ناقابل تردید طور پر، حتمی طور پر، یقیناً۔ مَجْدُول: مضبوطی سے بٹا ہوا، گوندھا ہوا، چٹیا کیا ہوا، گندھے ہوئے گیسو، پتلی، لمبی، خوش ترتیب اور خوشنما (ٹانگ وغیرہ)۔ مُجَادِل: شریک نزاع، جھگڑے میں حصہ لینے والا، جھگڑے میں حریف یا مخالف۔ جَدْوَل جمع جَدَاوِل: ندی، آبجو، نالہ؛ کالم، فہرست، فوجی فرائض کی فہرست، فہرست مضامین، نقشہ، گوشوارہ، فرد۔ جدول دِرَاسِیّ: نصاب تعلیم۔ جدولُ البورصة: سٹاک لسٹ۔ خارجَ جدول البورصة: غیر مذکور (صرافہ)۔ جَدْوَلُ الأعمال: ایجنڈا، کام کا پروگرام۔

جدم: جَدَم جَدَمَتْ النخلةُ: کھجور کے درخت کا پھل دار ہو کر خشک ہو جانا۔ صفت جَادِم ـــ ہ فَانْجَدَمَ: کو کاٹنا، کا کٹ جانا۔ الجَدَم: گھٹیا درجے کے لوگ۔ الجَدَمَة: پست قد آدمی ـــ و الجُدَامَة: وہ بالیاں جو پہلی بار گاہنے میں نہ ٹوٹیں۔

جدا: اجَدَا جَدْواً علیه: کو عطیہ دینا ـــ و اِجْتَدَی و اِسْتَجْدَی فلاناً: سے اپنی حاجت طلب کرنا، سے عطیہ مانگنا۔ أجْدَی إجداءً: عطیہ پانا ـــ فلاناً: کو عطیہ دینا۔ اِجْتَدَی ہ: کو عطیہ دینا۔ الجَدِیّ: سخی، فیاض۔ الجَدا و الجَدْوَی: عطیہ۔ الجَداء: عطاء۔ الجَادِی: عطیہ کا سائل، عطیہ دینے والا۔

۲ أَجْدَی إجداءً الأمرُ: نفع دینا، مفید ہونا۔ کہتے ہیں: مایُجدی عنك هذا: تم کو یہ نفع نہیں بخشے گا، فائدہ نہ دے گا۔ الجَداء: نفع۔ کہا جاتا ہے فلانٌ قلیل الجداء عنك: فلاں شخص تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ الأجدی: زیادہ نفع بخش۔ الجدا: عام بارش۔
۳ الجَدْوَة جمع جَدًی: گلہ، ریوڑ۔ الجَادِیّ (ن): زعفران۔
○ جَدَا جَدْواً علی: کو عطیہ دینا، تحفہ دینا۔ اجدی علی ب: کو بطور عطیہ کچھ دینا، کو کوئی چیز دینا۔ اَجْدَی: کارآمد ہونا، نفع بخش ہونا۔ اَجْدَی نفعاً: کارآمد ہونا۔ هذا لا یُجْدِیكَ: یہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، یہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ مایجدی عنك هذا: یہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ لا یُجْدِی فتیلاً، لا یُغنی فتیلاً: یہ کسی کام کا نہیں۔ اِستَجْدَی: خیرات مانگنا ـــ ہ ہ: سے کچھ مانگنا ـــ ہ: کی التجا کرنا۔ جَداء عن: کے لئے نفع، فائدہ۔ جَدْوَی: تحفہ، فائدہ نفع۔ بلا جَدْوَی و علی غیر جَدْوَی: بے کار، فضول، ناکارہ، لاحاصل، بے اثر، بے نتیجہ۔ اَجْدَی: زیادہ مفید، زیادہ سود مند۔

جدی: جَدَی جَدْیاً: عطیہ مانگنا۔ أَجْدَی إجداءً الجرحُ: زخم کا بہنا۔ الجَدْی جمع أَجْدٍ و جِداء و جِدیان (ح): پہلے سال کا بکری کا بچہ (فک) قطب کے پاس کا ایک ستارہ جس سے قبلہ کی شناخت کی جاتی ہے۔ اسے جدی الفرقد بھی کہتے ہیں۔ آسمان کے ایک برج کا نام جو برج دلو سے متصل ہے۔ الجَدْیَة جمع جَدًی و جَدَیَات: زین یا پالان کے نیچے کی گدی۔ یہ جَدْیَتَان ہوتے ہیں۔
○ الجَدْی: شمالی ستارہ جدی جمع جِداء و جِدیان: بکری کا بچہ، برج جدی، دسواں برج۔

جذ: اجَذَّ ہ جَذّاً فانجَذَّ: کو کاٹنا یا توڑنا جس کے نتیجہ میں اس کا کٹ جانا، ٹوٹ جانا۔ تَجَذَّذَ: ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ الجَذّ جمع جُذاذ: کٹی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی چیز کا چھوٹا ٹکڑا۔ آپ کہتے ہیں ثُرتُ إلی الصنم فکسرتُه أجذاذاً: میں بت کی طرف سمٹا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ الجُذَّة: ٹکڑا۔ الجُذاذ و الجَذاذ و الجِذاذ: ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی چیز، سونے کا ڈلا۔ الجُذاذ و الجُذاذة: ہر شے کی زیادتی۔ کہا جاتا ہے جُذاذتُه علیه کذا: وہ اس سے اس قدر زیادہ ہے۔ الأجَذّ مونث جَذّاء: ٹوٹا ہوا۔ الجُذاذات: کٹی ہوئی شے کے چھوٹے یا باریک ٹکڑے، ریزے ـــ کہا جاتا ہے عِندی جُذَاذاتٌ من الفِضّة: میرے پاس چاندی کے ریزے ہیں۔
۲ جَذَّ جَذّاً فی سیرہ: تیز تیز قدم چلنا۔ جَذَّذَ: قوم سے اپنی پیروی چاہنا مگر کسی کا اس کی پیروی نہ کرنا۔
○ جَذَّ جَذّاً ہ: کو کاٹ ڈالنا، کاٹنا، کترنا، تراشنا۔ جُذَاذَة جمع جُذَاذات: کاغذ کا پرزہ (slip of paper) جُذَاذات: چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چیتھڑے، پرزے، دھجیاں، ٹکڑے، کترنیں، ردی، بے کار چیزیں، ٹوٹی پھوٹی چیزیں، تراشے۔

جذب: اجَذَبَ جَذْباً و اِجْتَذَبَ ہ الیه فانْجَذَبَ: کو اپنی طرف کھینچنا، تو اس کا کھنچا چلا جانا۔ جَاذَبَ ہ و تَجَاذَبا الشیءَ: کسی چیز کے بارے میں کشمکش کرنا، کسی چیز کے بارے میں باہم کشمکش کرنا۔ جَذابِ: موت کا اسم علم۔ الجَذَّابَة: چھوٹی چڑیوں کا شکار کرنے کے لئے بالوں کا پھندا۔ الجَاذِبِیَّة (ف): کشش کی طاقت، قوت کشش۔ جاذبیة الارض: زمین کی قوت کشش۔ جَاذِبِیَّة الجمال: حسن کی قوت کشش (مجازا)۔
۲ جَذَبَ الشهرُ: مہینہ کا زیادہ حصہ گزر جانا۔ اِنْجَذَبَ فی السیر: تیز چلنا، دور تک چلے جانا۔ کہا جاتا ہے انجَذَبَ بهم السیرُ: وہ دور تک چلے گئے۔ الجَذْبَة: دور کی مسافت۔ کہا جاتا ہے بینه و بین المنزل جَذْبَةٌ: اس کے اور گھر کے درمیان لمبی مسافت ہے۔
۳ جَذَبَتِ الناقةُ: اونٹنی کا دودھ کم ہونا ـــ المهرَ عن أمه: بچھیرے کا دودھ چھڑانا۔ تَجَذَّبَ اللبنَ: دودھ پینا۔ الجاذِب جمع جَوَاذِب و جِذاب (فا): کم دودھ والی اونٹنی۔
○ جَذَبَ جَذْباً ہ: کو کھینچنا، کوشش کرنا، گرویدہ کرنا، متوجہ کرنا، کو کھینچ کر نکالنا، تلوار وغیرہ نکالنا ـــ ہ: کی توجہ مبذول کرنا، کے لئے دلکش ہونا، کو پسند آنا، مرغوب ہونا، کے لئے دلکش ثابت ہونا، کو موہنا، لبھانا، رجھانا، گرویدہ کرنا، فریفتہ کرنا، شیفتہ کرنا، پر جادو کرنا، کو مسحور کرنا، للچانا، سبز باغ دکھانا ـــ ہ الیه: کو اپنے ساتھ ملا لینا، کو ہم نوا بنا لینا۔ جَاذَبَ ہ ہ: سے کسی چیز کو کھینچنے وغیرہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ جاذَبَهُ الحبلَ: سے مقابلہ کرنا (رسہ کشی میں)۔ کسی سے مقابلہ کرنے کے قابل ہونا، کے معیار پر پورا اترنا، کا مد مقابل یا حریف ہونا، کا جوڑ ہونا۔ جَاذَبَهُ الكلامَ یا جاذَبَهُ حدیثاً یا جاذَبَهُ اطرافَ الحدیثِ: اس نے اسے گفتگو میں مشغول کیا، اسے مباحثہ میں مصروف رکھا۔

جَاذَبَهُ اطراف الحَضارةِ: سے ثقافت میں مقابلہ کرنا۔ تَجاذَبَ ہ: کو آگے پیچھے کھینچنا۔ ___ ہ/ہ: کو جیتنے کی کوشش کرنا۔ ___ ایک دوسرے کو کشش کرنا۔ تجاذبوا اطراف الحدیث: وہ گفتگو میں غرق تھے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اِنجَذَبَ: کھینچا جانا، کشش کیا جانا۔ ___ اِلی: کی طرف کھنچے چلا جانا، کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔ اِجتَذَبَ ہ/ہ الیہ: کو اپنی طرف کشش کرنا۔ ___ ہ: کو للچانا، سبز باغ دکھانا، موہ لینا، لبھانا، ورغلانا، پھسلا کر لیجانا۔ ___ ہ الیہ: کو اپنے ساتھ ملا لینا، کو ہمنوا بنالینا۔ ___ ہ: سگرٹ وغیرہ کے کش لینا۔ جَذب: کشش، دلکشی، دل چسپی، ورغلاہٹ، دل فریبی، لبھانا۔ اَخَذَ جَذبًا: چھیننا، طاقت سے لینا۔ الجَذبُ الجنسی: جنسی کشش (sex appeal)۔ جَذّاب: دل کش، دل ربا، گرویدہ کرنے والا، جاذب، مقناطیسی (مجازاً)، کسی جگہ سے ہوا خارج کرنا تاکہ کوئی اور چیز اندر لائی جا سکے suction۔ ایسے عمل کے متعلق مشغول رکھنے والا، دل فریب، دلربا، موہنا، اپنی طرف توجہ مبذول کروائے رکھنے والا۔ اَجذَب: زیادہ دلکش، زیادہ دل فریب، زیادہ موہنا۔ انجذاب: کشش، رغبت، میلان، رجحان۔ جاذب: دلکش، دل ربا، گرویدہ کرنیوالا، جاذب، مقناطیسی (مجازاً)، مشغول رکھنے والا، دل فریب، موہنا، اپنی طرف توجہ مبذول کرائے رکھنے والا۔ اجتذاب: کشش، ورغلاہٹ، پرکشش شئے۔ جاذِبیّة: کشش، کشش ثقل، دلفریبی، دلکشی، دلربائی، دلبری، دل آویزی، جذب و کشش، سخت کشش، مقناطیسیت (مجازاً)، ورغلاہٹ۔ جاذبیة الثقل: کشش کی قوت۔ جاذبیة مغنطیسیّة: مقناطیسی قوت، مقناطیسیت۔ جاذبیّةُ الجنس: جنسی کشش۔ مَجذُوب: کشش کیا ہوا، گرویدہ، لبھایا ہوا، پاگل، سودائی، دیوانہ، مخبوط الحواس، جمع مجاذیب۔ مستشفی المجاذیب: دماغی امراض کا شفاخانہ، پاگل خانہ۔ مُتَجاذِب: باہمی دلکش، غیر منفک، لاینفک، جدا نہ ہو سکنے والا۔ مُنجَذِب: کشش کیا ہوا۔ ___ اِلی: کی طرف مائل، کی طرف میلان رکھنے والا۔

جذر: ۱- جَذَرَ ـِ جَذرًا ہ: کو کاٹنا۔ ___ ہ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ جَذَّرَ و اَجذَرَ ہ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ انجذر: جڑ سے اکھڑ جانا۔ الجِذر و الجَذر جمع جُذُور: جڑ، اصل۔ جذرُ النبات (ز): پودے کی جڑ۔

۲- جَذَرَ العَدَدَ (ع ر): عدد کا جذر حاصل کرنا۔ الجِذر و ...

الجَذرُ (ع ح): خود میں ضرب دیا ہوا عدد مثلاً دس سو کا جذر ہے، کیونکہ دس کو اس سے ضرب دی جائے تو حاصل ضرب سو ہوتا ہے۔ المَجذُور (ع ح): جذر کا حاصل ضرب، چنانچہ مائة (سو) دس کا مجذور (حاصل ضرب) ہے۔

۳- الجَذر من البقرة: گائے کا سینگ۔ الجَوذَر و الجُوذُر و الجُوذَر جمع جَوَاذِر و جَآذِر (ح): نیل گائے کا بچہ۔ المُجَذَّر: بہت پستہ قد۔ الجذریّة: وہ دانت جو رباعیہ کے بعد ہو۔

○ جَذَرَ ـ جَذرًا ہ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ جَذَّرَ ہ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ ___ ہ: (عدد) سے جذر نکالنا۔ ___: جڑ پکڑنا۔ جِذر و جَذر جمع جُذُور: جڑ۔ جذر (ریاضی) تنہ، ڈنڈی، بنیاد، نچلا سرا، جمع اَجذار: رسید بک وغیرہ کی پرت جو اپنے پاس رکھی جاتی ہے، بچا ہوا ٹکڑا۔ جذر تربیعی: جذر۔ وہ عدد جس کا جز مربع ہوتا ہے۔ جِذری: جذر کا، بنیادی جزری (الجبرا)۔ تَجذیر: ارتقاء، جذر نکالنے کا عمل۔

جذع: ۱- جَذَعَ ـَ جَذعًا الدابةَ: جانور کو بغیر چارہ کے روکے رکھنا۔ ___ بَینَ البَعِیرَین: دو اونٹوں کو ایک رسی میں باندھنا۔

۲- جَذَعَ مِذَعَ (مبنی بر فتح علیحدگی و جدائی کا اظہار کرنے کے لئے) کہا جاتا ہے: ذھبوا جَذَعَ مِذَعَ (ذَھَبُوا مُتَفَرِّقِین): وہ جدا جدا چلے گئے۔

۳- الجِذع جمع جُذُوع و اَجذاع (ز): کھجور کے درخت کا تنہ۔ جِذعُ الانسان: انسان کا دھڑ۔ الجَذَع جمع جِذاع و جُذعان من البھائم: چھوٹا جانور۔ (جُذعانُ الجبال: چھوٹے پہاڑ)، نوجوان۔ کہا جاتا ہے: فلان فی ھذا الامر جَذَعٌ: فلاں شخص اس معاملہ میں نوآموز ہے۔ اعدتُ الامرَ جَذَعًا: میں نے اس کام کو از سر نو کیا۔ المُجذَّع و المُجذِّع: بے اصل اور بے ثبات شئے۔

○ جَذَع جمع جُذعان: نوجوان، نیا، ابتدائی، ابتدائی منزل میں۔ عادت الحربُ جَذَعَةً: جنگ دوبارہ شروع ہوگئی، پھر سے بھڑک اٹھی۔ اَعادَ الامرَ جَذَعًا: اس نے معاملہ کو دوبارہ شروع کیا، وہ پہلی حیثیت کی طرف لوٹ آیا۔ جِذع جمع اَجذاع و جُذُوع: تنا، دھڑ، اصلی حصہ، ٹھونٹھ، ٹنڈ (درخت کا) ٹھنٹھ، جسم کے کا دھڑ۔ جِذعی: تنہ کا۔ تنے کا۔

جذف: ۱- جَذَفَ ـِ جَذفًا الطائرُ: پرندہ کا تیز اڑنا۔ أجذَفَ الطائرُ: پرندہ کا تیز اڑنا۔ ___ القاربَ: ڈونگے کو چپو سے کھینا۔ تَجَذَّفَ فی مشیہ: تیز چلنا۔ المِجذاف: چپو۔

۲- جَذَفَ و اَجذَفَتِ المرأةُ: عورت کا چھوٹے قدم سے چلنا۔

۳- جَذَفَ ـ جَذَّفَ الشیءَ: کو کاٹنا۔

جذل: ۱- جَذِلَ ـ جَذَلاً و اِجتَذَلَ: خوش ہونا۔ صفت جَذِل و جَذلان جمع جُذلان مؤنث: جَذِلَة و جَذلی۔ اَجذَلَ ہ: کو خوش کرنا۔

۲- جَذَلَ ـ جُذُولاً و اِستَجذَلَ: سیدھا کھڑا ہونا۔ الجِذل جمع اَجذال و جُذُول و جِذال و جِذُولَة: درخت کا ٹھنٹھ (کہا جاتا ہے: عاد الشیءُ الی جِذلِہ: چیز اپنی اصل پر لوٹ آئی) خارشی اونٹ کے بدن رگڑنے کیلئے کھڑا کیا گیا لکڑی کا کندہ۔ تصغیر: جُذَیل۔ انا جُذَیلُھا المحکک: میں تجربہ کار اور واقف کار ہوں۔ ھو جِذلُ مال: وہ مال کا بہتر منتظم ہے۔

۳- تَجاذَلَ القومُ: باہم کینہ رکھنا، باہم دشمنی رکھنا۔

○ جِذل جمع اَجذال و جُذُول: (درخت کا) ٹھنٹھ۔ جُذَیل: لکڑی کا کھمبا جس پر اونٹ اپنے جسم رگڑتے ہیں۔ جَذَل: خوشی، دل لگی، چہل، خوش طبعی، ترنگ، خوش دلی، زندہ دلی، بہتات، ریل پیل۔ جَذِل جمع جُذلان: خوش، مسرور، شاداں، مگن، چنچل، زندہ دل، خوش دل، خوشی کا، روح پرور، شاد، بہت خوش، زندہ دلانہ۔ جَذلان: بمعنی جَذِل۔

جذم: ۱- جَذَمَ ـِ جَذمًا و جَذَّمَ ہ فانجَذَمَ و تَجَذَّمَ: کو جلدی سے کاٹنا اور اس کا کٹ جانا۔ صفت جذیم و اجذم۔ جَذِمَ ـَ جَذَمًا: کٹے ہوئے ہاتھ یا کٹی ہوئی انگلیوں والا ہونا۔ جُذِمَ: کوڑھی ہونا۔ صفت: اَجذَم و مَجذُوم و مُجَذَّم۔ اجذم یدہ: کا ہاتھ کاٹنا۔ الجِذم و الجَذم جمع جُذُوم و اَجذام: جڑ، تنہ۔ الجِذمَة: ٹکڑا۔ الجَذمَة و الجُذمَة و الجَزمَة: وہ جگہ جہاں سے ہاتھ کٹا ہو۔ الجِذمَة: ٹکڑا، چابک۔ الجُذام (طب): کوڑھ۔ الجُذامَة: کٹی ہوئی کھیتی کا بقیہ حصہ۔ الاَجذَم جمع جُذمی و جَذماء: کٹے ہوئے ہاتھ والا یا کٹی ہوئی انگلیوں والا۔ کہا جاتا ہے: ھو اَجذَمُ الحُجّةِ: اس کے پاس نہ تو دلیل ہے نہ قوت گوئی و بیان۔ المِجذام و المِجذامَة: معاملات میں قطعی اور فوری فیصلہ دینے والا، رشتہ اور دوستی کو جلد ختم کر دینے والا۔

أجذَمَ عن الشیء: سے باز رہنا۔ ___ علیہ: کا پختہ ارادہ کرنا۔

۳۔ اِجْذَمَ فِی سَیرِہٖ: تیز چلنا۔

◯ جَذَمَ ۔جَذْمًا ہٗ: کو کاٹنا (خصوصاً جسم کا کوئی حصہ)۔ ـــ ہٗ: گلے کی گلٹی، آنتیں وغیرہ) بذریعہ سرجری نکال دینا، کاٹ دینا۔ جِذْم جمع جُذُوم و اجذام: جڑ۔ جُذَام: کوڑھ۔ جُذَامَة: (پودوں کے) ٹھنٹھ۔ اَجْذَم جمع جَذْمٰی: کوڑھی، جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں۔ مَجْذُوم: کوڑھی۔

◯ جُذْمُور: ٹھنٹھ۔

جذا: جَذَا ۔جُذُوًّا و جُذُوًّا و اَجْذٰی علی الشیءِ: پر سیدھا کھڑا رہنا۔ تَجَاذَی الحجرَ: پتھر اٹھانا۔ الجَذَاة جمع جَذَاء: بڑے درختوں کی جڑیں۔ الجُذْوَة و الجَذْوَة و الجِذْوَة جمع جُذًی و جِذًی و جِذَاء: دہکتا ہوا انگارہ، جلتی ہوئی چنگاری۔ کہا جاتا ہے۔ فلانٌ جذوة شرٍّ: فلاں شخص فساد کی چنگاری ہے۔ شر و فساد کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔

جذی: جَذٰی ۔جَذْیًا و اَجْذٰی فلانًا عنه: کو سے روکنا۔ تَجَاذَی تجاذِیًا: کھسک جانا۔ الجِذْی و الجذیة من الشجرة: درخت کی جڑ۔

◯ جَذْوَة و جِذْوَة و جُذْوَة جمع جِذًی و جُذًی و جِذَاء: جلتی ہوئی لکڑی۔

جرّ: ۱۔ جَرَّ ۔جَرًّا ہٗ و بہٖ: کو کھینچنا، گھسیٹنا۔ ـــ الابلَ: اونٹوں کو آہستہ آہستہ ہانکنا۔ جَرَّرَہٗ و بہٖ: کو زور سے کھینچنا۔ جارَّہٗ رَسَنَہٗ: کو چھوڑ دینا کہ جو چاہے کرے، کو اس کی مرضی پر چھوڑ دینا۔ اَجَرَّ الرَّسَنَ: رسی کھینچنا۔ ـــ ہٗ رسنہٗ: کو اس کی مرضی پر چھوڑ دینا، کو چھوڑ دینا، جو چاہے کرے۔ ـــ ہٗ الرمحَ: کو نیزہ مار کر اور زخم میں چھوڑ کر کھینچنا، گھسیٹنا۔ اِنْجَرَّ: کھنچا جانا، گھسیٹا جانا۔ اِجْتَرَّ و اِجْدَرَّ الشیءَ: کو کھینچنا۔ اِسْتَجَرَّ الشیءَ: کو کھینچنا۔ ـــ المالَ: کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا۔ ـــ لفلانٍ: کا مطیع و فرمانبردار ہونا۔ الجَرّ (مص) اسی سے ہے۔ کانَ ذلك عام کذا وهلمَّ جرًّا إلی الیوم: یہ فلاں سال میں تھا اور آج تک ایسا ہی ہے۔ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ جس میں عامل محذوف ہے یعنی جُرَّ جَرًّا ہے۔ یا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے صفت کی تاویل کے ساتھ یعنی هَلُمَّ جارًا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ فعلتُ ذلك من جَرَّاكَ و جَرَّائِكَ و جَرَاكَ و جَرَائِكَ: یہ میں نے تمہاری وجہ سے کیا۔ اور جرہ جذب کے معنی سے ماخوذ ہے۔ الجُرَّة جمع جُرَر: ہرن پکڑنے کے لئے لکڑی کا پھندا۔ الجَرَّة جمع جِرَر و جِرَار: جرٌّ کا اسم مرۃ۔ الجِرَّة: کھینچنے کی ہیئت۔ الجَرُور من الآبار: گہرا کنواں۔ ـــ من النساء: چلنے سے اپاہج عورت۔ فرسٌ و جملٌ جَرُورٌ: بے قابو گھوڑا اور اونٹ۔ المَجَرّ: پانی بہنے کی جگہ۔ المِجَرّ: موٹا دھاگا جو جوہر کے گرد گھومنے والی چیز کے گرد لپیٹا جاتا ہے۔ المَجَرَّة (فلك): کہکشاں، عام لوگ اسے دربُ التَّبَّانة کہتے ہیں۔ الجارُور: پانی بہنے کی جگہ، سیلاب سے پیدا شدہ نالہ، چھوٹی صندوقچی جو کھینچ کر کھلے۔ الجَرَّار: بہت کھینچنے والا۔ جیشٌ جَرَّارٌ: بہت بڑا لشکر، صندوقچی جو کھینچ کر کھلے، (عام زبان میں) الجَرَّارة جمع جَرَّارات (حی): ٹریکٹر۔ (ح): زرد رنگ کا بچھو جو اپنی دم کو گھسیٹ کر چلتا ہے۔

۲۔ جَرَّ و اِجْتَرَّ البعیرُ: اونٹ کا جگالی کرنا۔ اَجَرَّ البعیرُ: اونٹ کا جگالی کرنا۔ الجِرَّة و الجَرَّة: جگالی۔ حیوانٌ مُجْتَرٌّ: جگالی کرنے والا جانور جمع الحیوانات المُجْتَرَّة: جن میں مشہور گائے اور اونٹ ہیں۔

۳۔ جَرَّ الکلمةَ: لفظ کو جر کی حرکت دینا یعنی اس کے آخر میں زیر دینا۔ الجَرّ: (زیر (ـِـ) ایک قسم کا اعراب خواہ حرکت کی شکل میں یا حرف کی صورت میں۔

۴۔ جَرَّ علی نفسه جَرِیرَةً: گناہ کا ارتکاب کرنا۔ الجَرِیرَة: گناہ، جرم۔ کہا جاتا ہے۔ فعلتُ ذلك من جَرِیرَتِكَ: میں نے یہ تمہاری وجہ سے کیا۔

۵۔ جَرَّ ۔جَرًّا لسانَ الفصیلِ: اونٹنی یا گائے کے چھوٹے بچے کی زبان چیرنا کہ وہ دودھ نہ چوس سکے۔ اَجَرَّ الفصیلَ: اونٹنی یا گائے کے چھوٹے بچے کی زبان چیرنا تاکہ وہ دودھ نہ چوس سکے۔ ـــ لسانَه: کو بولنے سے روکنا۔

۶۔ اَجَرَّہٗ الدَّینَ: کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا۔ جارَّہٗ: کو ٹال مٹول کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ جارَّہُ الدَّینَ: اس نے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کی۔

۷۔ الجَرّ: گڑھا (جَرُّ الجبل: دامنِ کوہ)، بجو وغیرہ کا بھٹ۔ الجُرَّة جمع جُرَر: غلہ بونے کے لئے سوراخ والا برتن۔ الجَرَّة جمع جَرّ و جِرَار: (مٹی کا) مرتبان، گھڑا۔ بھوبھل میں پکائی ہوئی روٹی۔ الجِرَّة: خانہ بدوش لوگ۔ الجِرِّیّ (ح): ایک قسم کی بام مچھلی۔ الجِرِّیَّة و الجِرِّیْئَة (ع ا): پرندہ کا پوٹا۔ الجَرَّار: کمہار، گھڑا بنانے یا بیچنے والا۔ الاَجْرَّان: انس و جن۔ المَجَرّ: شہتیر (دو دیواروں کے درمیان رکھا ہوا)۔

۸۔ جَرْجَرَ الجملُ: اونٹ کا بلبلانا۔ ـــ الماءَ: ـــ في حلق: میں پانی کا گڑگڑانا۔ ـــ و تَجَرْجَرَ الماءَ: پانی کو غٹ غٹ پینا۔ الجَرْجَر جمع جَرَاجِر: حلق۔ الجَرْجَارَة: چکی۔

۹۔ الجَرْجَر جمع جَرَاجِر: غلہ گاہنے کا آہنی آلہ یا مشین۔ الجِرْجِر و الجُرْجُر: لوبیا، چنا۔ الجَرْجِیر (ن): چشموں یا دلدلوں کے قریب یورپ اور ایشیا کے معتدل حصوں میں پیدا ہونے اور سلاد کے طور پر کھائی جانے والی سبزی کی ایک قسم۔

◯ جَرَّ ۔جَرًّا ہٗ: کو کھینچنا، نکالنا، گھسیٹنا، جھٹکا دے کر کھینچنا، رسی باندھ کر کھینچنا، گھسیٹ کر لیجانا، جال ڈال کر اور پر کھینچنا، پیچھے گھسیٹنا، پیچھے گھسیٹتے ہوئے چلنا۔ ـــ ہٗ/ہٗ: کو کھینچنا، گھسیٹنا۔ ـــ ہٗ علی: (چیک کی بنک کے نام) کاٹنا، کو کے اوپر گرانا۔ ـــ الی: پر منتج ہونا، کا باعث ہونا۔ ـــ ہٗ علی: کسی برائی کا کسی کے لئے قدرتی نتیجہ ہونا۔ جَرَّ جریرةً علی: کے خلاف کسی جرم کا ارتکاب کرنا، سخت توہین کا مرتکب ہونا۔ جَرَّ قیودًا: بیڑیاں پہن لینا۔ جَرَّ النارَ إلی قُرْصِه: اپنے لئے فوائد حاصل کرنا، اپنا گھر بھرنا۔ لا یجرُّ لسانه بکلمة: وہ اپنے ہونٹوں سے کوئی بات نکلنے نہیں دے گا۔ اَجَرَّ: جگالی کرنا۔ اِنْجَرَّ: جر کا مجہول کا صیغہ۔ (نیز) ہانکا جانا، بہا لیجایا جانا، بہہ جانا، بہے چلے جانا۔ اِنْجَرَّ إلی الوراء: ہٹ جانا، پیچھے ہٹنا، کا شکار ہونا۔ اِجْتَرَّ: جگالی کرنا۔ اِجْتَرَّ آلامَهٗ: اپنی تکلیفوں کے بارے میں دیر تک غور کرنا۔ جَرّ: کھینچنا، گاڑیوں کو کھینچنا، گھسیٹنا، گھسیٹ کر لیجانا، باعث ہونا، سبب ہونا، وجود یا عمل میں لانا، حالت جری۔ حرف الجر: حرف جار۔ و هَلُمَّ جرًّا: وغیرہ وغیرہ۔ و قِس علی هذا، الخ۔ جَرَّة جمع جِرار: (مٹی کا) مرتبان، گھڑا۔ جَرَّة و جُرَّة: نشان، لیک (گاڑی کی چھوڑی ہوئی) لیک۔ بجَرَّةِ قلمٍ: بیک جنبش قلم۔ جِرَّة: جگالی۔ مِن جَرَّی: کی وجہ سے۔ من جَرَّاكَ: تمہاری وجہ سے، تمہاری خاطر۔ مِن جَرَّاءِ: کی وجہ سے، کے باعث۔ من جراءِ ان: چونکہ، کی وجہ سے، کے باعث۔ من جراءِ ان: چونکہ، کی وجہ سے، کے باعث۔ جَرَّار: (لشکر) جرار، بہت بڑا، بہت ہی بڑا کمہار، ظل ساز۔ جَرَّار (جمع جَرَّارات): ٹریکٹر، ٹگ (ٹگ بوٹ) دخانی ٹگ، ٹو لانچ۔ towing launch۔ جارُور جمع جَوَارِیر: (میز وغیرہ) کی دراز۔ جارُورَة: جیلی، کریدنی (اوزار)۔ جَرِیرَة جمع جَرائِر: گناہ، قصور، خطا، جرم، خلاف ورزی، انتہائی ظلم، سخت توہین۔ من جریرة: کی وجہ سے، کے

باعث۔ جَـرَّارَہ جمع جَـرَّارات: ایک قسم کا بچھو، زیکٹر۔ مِجَرّ: آثار، مَجَرَّۃ: کہکشاں۔ اِنْجِرارِیۃ: گاڑی وغیرہ کی کھنچائی کی اجرت۔ مَجْرُور: کھینچا ہوا، گھسیٹا ہوا، لو کیا ہوا، حرف جس پر زیر ہو۔ (جمع مجاریر) نالی، گندہ نالہ، بدرو۔ مَجارِیر: گندے نالے، بدرو، گندے پانی کی نالیوں کا نظام۔ مُجْتَرّ: جگالی کرنے والا، جگالی کرنے والا جانور۔

جرؤ: ۱۔ جَرُؤَ ـجُراءَۃً و جُرْأَۃً و جُرَاۃً و جَرَائِیَۃً علیہ: پر دلیر ہونا، جرأت کرنا۔ صفت: جَرِیٔ۔ جَرَّأَہُ تَجْرِئَۃً فَاجْتَرَأَ: کو پر جرأت دلانا تو اس کا جرأت کرنا۔ اِسْتَجْرَأَ: بناوٹی دلیر بننا، جھوٹ موٹ دلیری دکھانا۔ جَرِیٔ جمع أجْرَاء و أجْرِیاء: دلیر، جرأت مند۔ الجَرِیئۃ جمع جَرائی: درندوں کے شکار کرنے کا مکان۔

۲۔ الجَرِیئۃ (ع ا): پوٹا، حلق۔

○ جَرُؤَ ـجُرْأَۃً و جَرَاءَۃً علی: کی جرأت کرنا، کو خطرے میں ڈالنا، کا خطرہ مول لینا، کو کہنے یا پیش کرنے کی جسارت کرنا۔ ـــ (علی/أن): کو کرنے کا خطرہ مول لینا۔ ـــ علی: کی ہمت رکھنا۔ تَجَرَّأَ: بہادر، نڈر یا بے باک ہونا، خطرے میں کود جانے والا ہونا۔ جَرَّأَہ علی: کو کی جرأت دلانا، کی پر ہمت بڑھانا۔ تَجَرَّأَ علی: بمعنی جَرُؤَ علی۔ اِجْتَرَأَ: خطرے میں کود جانے والا ہونا، بہادر، نڈر یا بے باک ہونا۔ ـــ علی: کے ساتھ نڈر ہو جانا، کی ہمت کرنا، کو کرنے کی جسارت کرنا۔ جَرِیٔ جمع أجْرِیاء: بہادر، جرأت مند، دلاور، باہمت (علی و ب: میں)، گستاخ، دلیر، بہادر، نڈر، بے باک، غیر محتاط، جیالا، بے وقوف۔ جُرْأَۃ و جُرَاءَۃ: ہمت، بہادری، بے باکی، گستاخی۔ مُجْتَرِئ: بہادر، گستاخ۔

○ جَرَاج جمع جَرَاجات: گیراج۔

○ جَرَام: گرام۔

○ جَـرانِیـت: گرینیٹ (ایک عمارتی پتھر)۔ جَرَانِیتی: گرینیٹی، عمارتی پتھر کا۔

جرب: ۱۔ جَرِبَ ـجَرَبًا (طب): کھجلی والا ہونا، کو کھجلی لگنا، صفت: جَرِب و جَرْبَان و أجْرَب جمع جِرَاب و جَرْبَی و اَجَارِب و جُرْب۔ أجْرَبَ القَومُ: لوگوں کے اونٹوں میں کھجلی کی بیماری کا پھیل جانا۔ ـــ ہ: کو کھجلی کی بیماری میں مبتلا کرنا۔ الجَرَب (طب): کھجلی کی بیماری۔ الجَرْبَاء: اجرب کا مونث: خارش کی بیماری میں مبتلا عورت، ستاروں بھرا آسمان۔

۲۔ جَرِبَ ـجَرَبًا السیفُ: تلوار کا زنگ آلود ہونا۔ الجَرَب: تلوار کا زنگ۔

۳۔ جَرِبَ ـجَرَبًا الرجلُ: ہلاکت زدہ زمین والا ہونا۔ الجَرْبَاء: قحط زدہ زمین۔

۴۔ جَرَّبَ تَجْرِیبًا و تَجْرِبَۃً ہ: کو آزمانا، کا تجربہ کرنا، کا امتحان لینا۔ المُجَرَّب: آزمودہ، امتحان لیا ہوا۔ دراھمُ مُجَرَّبَۃٌ: کھرے درہم۔

۵۔ الجَرْب: عیب، برائی۔ الجُراب: سامان سے خالی کشتی۔ الجِراب جمع أجْرِبَۃ و جُرُب و جُرْب: تلوار کا میان، چمڑے کا برتن، کنویں کا جوف، خصیوں کی تھیلی۔ الجَرَبَّۃ: سخت و تند آدمیوں وغیرہ کا گروہ، کھاؤ اور نکمے اہل و عیال۔ الجِرْبِیاء: شمالی ہوا یا اس کی ٹھنڈ۔ الجِرِبَّان و الجُرُبَّان من السیف: میان، پرتلہ، دھار (فارسی لفظ)۔ ـــ من القمیص: گریبان۔

۶۔ جِـرْبَارۃ (ن): لمبے تنے کا جنوبی افریقہ کا ایک پودہ۔ موسم سرما میں پھول لگتے ہیں، حال ہی میں اس کی کاشت شروع ہوئی، برف پڑنے والے ملکوں میں زندہ نہیں رہتا۔

۷۔ جَـرْبِیَّۃ (ن): ایک پھولدار پودا جو یورپ ایشیا خصوصاً بحرابیض متوسط کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔

۸۔ جَـوْرَبَ ہ فتَجَـوْرَب: کو جرابیں پہنانا تو اس کا جرابیں پہن لینا۔ الجَـوْرَب جمع جَـوَارِب و جَوَارِبَۃ: جراب۔

○ جَـرِبَ ـجَـرَبًا: خارش والا ہونا، کھجلی والا ہونا، (رنگ) اڑ جانا، پھیکا پڑنا، ماند پڑنا۔ جَـرَّبَ ہ: کو آزمانا، جانچنا، کا تجربہ کرنا، کو تجربتاً استعمال کرنا، کی کوشش کرنا، کا نمونہ دیکھنا، کی مشق کرنا، دہرانا، کو بار بار یا باقاعدگی سے کرنا، کی کوشش کرنا۔ ـــ ہ: کو جانچنا، کی آزمائش کرنا، کا تجربہ کرنا، کو آزمانا، آزما کر دیکھنا، کو شش کرنا۔ جَرَّبَ نَفْسَہُ فی: کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا۔ جَـرَّبَ الأیّـامَ: تجربات اکٹھے کرنا۔ جَرَب: خارش، کھجلی۔ جَرِب: خارش والا، کھجلی والا، خارشتی۔ أجْـرَب مونث جَـرْبَـاء جمع جُـرْب و جَرْبَان: کھجلی والا، خارش والا، خارشتی۔ جِراب جمع أجْـرِبَۃ و جُـرُب: تھیلا، سفری تھیلہ، سفری بیگ، جھولا، بقچہ، خصیوں کی تھیلی، کیس، ڈھکنا، پوش، پوشش، میان، نیام۔ جُرَاب جمع جُرَابات: جراب، موزہ، پائتابہ۔ جَرِیب: قابل کاشت قطعہ زمین۔ تَجْرِبَۃ جمع تَجَارِب: پرکھ، امتحان، جانچ، ذریعہ آزمائش، آزمائش، تجربہ، آزمائشی معائنہ، ہر دل

عزیزی، وغیرہ دیکھنے کا تجربہ، کوشش، مشق، عمل، سائنسی تجربہ، آفت، ایذا، ترغیب، تحریص، حرص کا پھندا، ـــ و تَجْرِبَۃٌ مَطْبَعِیَّۃ: پروف، گیلی پروف۔ تَـجْـرِیـب: آزمائش، پرکھ، جانچ، امتحان، تجربہ تکلیف، ایذا، تحریص، ترغیب۔ تَـجْـرِیبِیّ: تجربہ کا پرکھ کا، آزمائش کا، جانچ کا، تجرباتی، تجربہ پر مبنی، علمی، تجرباتی، علم النفس التجریبی: تجرباتی نفسیات یا علم النفس۔ تَـجْـرِیبۃ: تجربہ کاری، تجربیت۔ مُجَرِّب: تجرباتی، امتحان لینے والا، تجربہ کرنے والا، محرک، لالچ دینے والا۔ مُجَرَّب: آزمودہ، تجربہ کیا ہوا، تجربہ سے ثابت شدہ یا مسلمہ قرار دیا ہوا، زمانہ کا آزمایا ہوا، تجربہ کار، پختہ کار، تجربہ کار بنایا ہوا۔

○ جُرْبُز جمع جَرَابِزَۃ: ٹھگ، پاکھنڈی، بہروپیا، دھوکے باز فریبی۔ جَرْبَذَۃ (نیز جَرْبَذَۃ): دھوکا، فریب، ٹھگی، چال، حیلہ سازی، دھوکہ دہی، دغابازی۔

○ جَرْبُوع (= یَرْبُوع) جَرَابِیع: چوہے کے مانند ایک جانور جسکی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی لمبی اور دم طویل ہوتی ہے۔

○ جَرْبَنْدِیۃ (اور جَرَابَنْدِیۃ): جھولا، بقچہ۔

جرث: ۱۔ الجِرِّیث (ح): ایک قسم کی مچھلی۔

۲۔ تَجَرْثَمَ: اوپر سے نیچے گر کر کا نیچے ہوئے اکٹھا ہونا اور سکڑ جانا۔ اِجْرَنْثَمَ: اپنی جگہ جمے رہنا، اوپر سے نیچے گر کر کا نیچے ہوئے اکٹھا ہونا اور سکڑ جانا۔ الجُرْثُوم و الجُرْثُومَۃ جمع جَرَاثِیم من الشیء: جڑ، درخت کی جڑ میں جمع شدہ مٹی۔ (جُـرْثُـومۃُ الـنـمـل: چیونٹیوں کی بستی)۔ جراثیم، جرثومہ، بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے۔ microbe۔

○ جُـرْثُوم، جُرْثُومَۃ جمع جَـرَاثِیم: جڑ، اصل، جرثومہ، جراثیم (germ)، microbe، bacteria, bacillus۔

جرج: جَرِجَ ـجَرَجًا الرجلُ: سخت زمین پر چلنا۔ ـــ الخاتمُ فی اصبعہ: کی انگلی میں انگوٹھی کا ڈھیلا ہونا۔ صفت: جَـرِج۔ الـجَـرَج: سخت زمین۔ الجُرْجَۃ جمع جُرَج: خرجی نما تھیلا، توشہ دان۔

○ جَرَاج: گیراج۔ garage۔

جرح: ۱۔ جَرَحَ ـجَرْحًا ہ: کو زخمی کرنا۔ جَرِحَ ـجَرَحًا: زخمی ہونا۔ جَرَّحَ ہ: کو بہت زخمی کرنا۔ الجُرْح جمع جُرُوح و أجْرَاح: زخم۔ الجَارِحۃ جمع جَوَارِح: چھری۔ الجِراحۃ جمع جِرَاح و جراحات: زخم (طب): جرّاح کا پیشہ۔ الجَرّاح و الجراحیّ (طب): زخموں کا علاج کرنے والا۔

الطبیب الجرّاح: زخموں وغیرہ کو چیرنے پھاڑنے والا، سرجن۔المَجْرُوح جمع مَجَارِیح و الجَرِیح جمع جَرْحَی زخمی۔

۲۔جَرَح جَرْحًا ہ بلسانہ کسی کا عیب و نقص بیان کرنا۔کہا جاتا ہے: جَرَحَ الشہادۃَ اس نے گواہی کو باطل کر دیا۔جَرَّحَ الشہادۃَ شہادت کو رد کر دینا۔اِسْتَجْرَحَ الشیءُ عیب دار اور فاسد ہونا۔الجُرْحۃ مخالف کی شہادت اور اس کی دلیل کو باطل کرنے والی چیز۔

۳۔جَرَح جَرْحًا الرجلُ کمانا۔صفت: جَارِح۔ اسی سے ہے: مَالہ جَارِحَۃٌ اس کا کوئی کمانے والا نہیں۔اِجْتَرَحَ الشیءَ کو کمانا۔الجَارِحَۃ جمع جَوَارِح انسان کا عضو خصوصاً ہاتھ (کیونکہ وہ اس سے کماتا ہے)۔ شکاری درندہ، پرندہ یا کتا۔ الجوارح من الطیر شکاری پرندے، جیسے باز۔

۴۔اجترح الإثم گناہ کا ارتکاب کرنا۔الجِراحَۃ جمع جِراح و جِراحات گناہ۔جَوَارِح: دن (دن کے مصائب سے کنایہ ہے)۔اسی سے ہے: نعوذ باللّٰہِ من طوارقِ اللیل و جوارحِ النہار ہم دن رات کے مصائب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔

○ جَرَحَ جَرْحًا ہ: کو زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، تکلیف پہنچانا، خصوصاً کسی کے احساسات و جذبات کو۔جَرَّحَ ہ: گواہی کو کالعدم قرار دینا۔ ہ (گواہ کو) چیلنج کرنا، ناقابل اعتبار قرار دینا۔ ہ/ہ: پر یا کے خلاف باقاعدہ احتجاج کرنا۔اِجْتَرَحَ ہ: (جرم، ظلم کا) ارتکاب کرنا۔اِجْتَرَحَ السَّیِّئَات: برے کام کرنا۔جُرْح جمع جِراح و جُرُوح و جُرُوحات و أَجْرَاح زخم، صدمہ، نقصان، اعضاء کے فعل یا ساخت میں خلل۔جَرَّاح جمع جَرَّاحون: سرجن surgeon۔جَرَّاح الأسنان: دانتوں کا سرجن۔جِرَاحۃ جراحی surgery۔جَرَّاحِیّ: عمل جراحی سے متعلق۔عَمَلِیَۃ جَرَّاحِیَۃ: عمل جراحی surgical operation۔جَرِیح جمع جَرْحَی: زخمی، تکلیف دیا ہوا، نقصان پہنچایا ہوا۔تجریح: جراحی surgery، رسوائی، ہتک، ازالہ حیثیت عرفی۔جَارِح نقصان پہنچانے والا، زخمی کرنے والا، چبھتا ہوا، تکلیف دہ، جذبات کو ٹھیس لگانے والا، شکار پہ بسر کرنے والا درندہ، شکار خور، شکار کا عادی۔جَارِحَۃ جمع جَوَارِح شکاری جانور یا پرندہ۔جَوَارِحُ الطَّیر: شکاری پرندے۔جَوَارِح: اعضاء بدن، ہاتھ پاؤں۔بِکُلِّ جَوَارِحِہِ پوری قوت سے۔مَجْرُوح جمع مَجَارِیح زخمی، نقصان پہنچایا ہوا، جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہوا۔

جرد ۱۔جَرَدَ جَرْدًا و جَرَّدَ العودَ لکڑی چھیلنا۔ـــ الجلدَ کھال کے بال اتارنا۔ ـــ السیفَ تلوار کو ننگی کرنا۔جَرِدَ جَرَدًا چٹیل ہونا۔جَرَّدَہٗ ثوبَہٗ و مِن ثوبہ کے کپڑے اتار کر اس کو ننگا کرنا۔ ـــ الکتابَۃَ لکھائی پر اعراب نہ لگانا۔تجرّدَ: ننگا ہونا۔ ـــ للامر: کسی کام کے لئے فارغ ہو کر اس میں جدو جہد کرنا۔ ـــ الفرسُ: گھوڑ دوڑ میں گھوڑے کا آگے نکل جانا۔اِنْجَرَدَ: ننگا ہونا۔ ـــ بنا السیرُ: کسی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر چلتا رہنا۔اُجْرُدَ القطنَ: روئی دھنا۔الجُرْد سواروں کا رسالہ جس میں پیدل چلنے والے نہ ہوں۔الجُرْدَۃ: ننگا پن، عریانی، برہنگی۔الأَجْرَد مونث جَرْدَاء جمع جُرْد بے بالوں والا (عام لوگ اسے اجرودی کہتے ہیں)، کامل، پورا (کہا جاتا ہے: یومٌ او شہرٌ او عامٌ أَجْرَدُ پورا دن، مہینہ یا سال۔ما رأیتہ منذ أَجْرَدَین میں نے اس کو پورے دو دنوں، یا مہینوں یا سالوں سے نہیں دیکھا)۔ ـــ من الخیل: گھوڑ دوڑ میں آگے رہنے والا گھوڑا۔لبنٌ أجرَد: جھاگ کے بغیر دودھ۔خَمرَۃ جَرْدَاءُ شراب صافی۔صَخْرَۃ جَرْدَاء: چکنی چٹان۔المِجْرَد (حی): روئی دھننے کا آلہ، دانت صاف کرنے کا برش۔ الجَرَّاد: قلعی گر۔ الجُرَادَۃ: لکڑی کی چھیلن۔الجَرِیْدَۃ جمع جَرَائِد سواروں کا رسالہ۔التَجْرِیْد عند النُحاۃ: کلمہ کو لفظی عوامل سے محروم کرنا جیسے: زید قام، و عند الصرفیین: کلمہ کا زوائد سے خالی ہونا جیسے قام زیدٌ: التَجْرِیدَۃ فوج کا دستہ۔

۲۔جَرَدَ جَرْدًا و جَرَّدَ القحط الارضَ: قحط سالی کا زمین کو چٹیل میدان بنا دینا۔جَرِدَ جَرَدًا المکانُ: کسی جگہ ٹڈیوں کا اترنا۔جُرِدَتِ الارضُ: کسی جگہ کی کھیتی یا سبزی کو ٹڈیوں کا کھا جانا۔الجَرْد (مص): مکانٌ جَرْدٌ: نباتات سے خالی جگہ۔الجَرَد و الجَرِد: نباتات سے خالی جگہ۔الأَجْرَد: بے نباتات۔جَرَادَۃ جمع جَرَاد (ح): ٹڈی۔الجَارُود و الجَارُودَۃ من السنین: سخت قحط سالی کا سامان۔

۳۔جَرَدَ الجَرِیْدَۃَ: کھجور کے درخت کی پتوں سے صاف کی ہوئی ٹہنیاں پھینک دینا۔الجَرِید واحد جَرِیْدَۃ: پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی ٹہنیاں۔الجَرِیْدَۃ جمع جرائد عند المولّدین: لاٹھی جسے شہسواروں کے کھیلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

۴۔جُرِدَ جَرَدًا الفرسُ گھوڑے کا چھوٹے بالوں والا ہونا۔صفت: أَجْرَد۔ الجَرَد بالوں کا چھوٹا ہونا۔

۵۔جَرِد جَرَدًا الثوبُ کپڑے کا گھس کر زم ہونا۔ صفت: أَجْرَد۔ انْجَرَدَ الثوب کپڑے کا گھس کا بوسیدہ ہونا۔ الجَرْد: پرانا۔کہا جاتا ہے: الثوبُ الجَرْد پرانا اور بوسیدہ کپڑا۔الجَرْدَۃ: بوسیدہ کپڑا۔المُنْجَرِد بمعنی الأَجْرَد۔

۶۔الجُرْد جمع جُرُود اونچے پہاڑ۔(۱۳۰۰ اور ۳۰۰۰ میٹر کے درمیان بلندی والے) عام لوگ انہیں الصُرُود کہتے ہیں۔ الجَرْد: ڈھال، بچا ہوا مال۔ الجَرِیْدَۃ جمع جَرَائِد باقی ماندہ مال، رجسٹر، اخبار۔ جریدۃُ الضبط عدالتی مسل۔

۷۔الجَرْدَق و الجَرْدَقَۃ جمع جَرَادِق: روٹی۔

○ جَرَدَ جَرْدًا ہ: کو چھیلنا، کی چھیل اتارنا، چھال اتارنا، (ناخن وغیرہ) تراشنا، کا خول، کھپرا، چھلکا یا پوست اتارنا، کی بھوسی اتارنا، کو ننگا کرنا، برہنہ کرنا، کے اوپر کی مٹی یا خس و خاشاک ہٹانا، دور کر دینا۔ ـــ مال کی فہرست بنانا۔ ـــ البضائعَ: موجودہ سامان کو فہرست میں درج کرنا۔جَرَّدَ ہ: کو چھیلنا، کی چھال اتارنا، کی بھوسی خول، کھپرا، چھلکے، یا پوست اتارنا۔ ـــ ہ: ہ من: کو سے محروم کر دینا، کو سے بے دخل کر دینا، کے کپڑے اتار دینا، کو برہنہ کرنا۔ ـــ ہ من: سے کچھ روکنا۔ ـــ السیف تلوار نکالنا، میان سے نکالنا۔ ـــ ہ علی: کو کے خلاف چھوڑ دینا۔ ـــ ہ ضد/علی: فوجی دستہ کو کے خلاف بھیجنا۔ ـــ ہ/ہ من کو سے آزاد کرنا۔ ـــ ہ: کو الگ تھلگ کرنا، علیحدہ کرنا، نکالنا۔ ـــ ہ من: کو شہرت، منصب، ذاتی حق وغیرہ سے محروم کرنا۔جَرَّدَہ من السلاح: کو نہتا کرنا، کا اسلحہ چھین لینا۔جَرَّدَ نفسَہ من: اپنے آپ کو سے آزاد کرنا، سے نجات حاصل کرنا، سے جان چھڑانا، سے پیچھا چھڑانا، کو چھوڑ دینا، ترک کر دیا۔تَجَرَّدَ: جَرَّدَ کے معنی میں مجہول کا صیغہ۔ ـــ عن/من: سے نجات حاصل کرنا، جان چھڑانا یا پیچھا چھڑانا، اپنے کو سے آزاد کرنا۔ ـــ عن/من لِ: سے کے لئے آزاد ہو جانا۔ ـــ لِ: کلیۃً کسی کام میں لگ جانا۔ ـــ من/عن: کو چھوڑ دینا، سے دست بردار ہونا۔ ـــ: اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا، غیر مشروط ہونا۔جَرْد: ننگا، تار تار، فرسودہ، گھسا پٹا، پھٹا پرانا، سامان مندرجہ فرد، دوکان میں موجود تمام مال کی

فہرست بنانے کا عمل (Stocktaking)۔ جَـرِد: بنجر، بے رنگ سبزہ، سخت (پیش منظر)۔ اَجْرَد مونث جَرْدَاء جمع جُـرْد: سنسان، ویران، غیر آباد، روکھا، بے سبزہ، بے روئیدگی، گنجا، بالوں کے بغیر، تار تار، فرسودہ (لباس) کھلی غیر محفوظ (سرحد)۔ جَـرَاد (اسم جنس واحد جرادۃ)۔ ٹڈیاں۔ جرادٌ رَحالٌ نقل مکانی کرنے والی ٹڈیاں۔ جـرادُ البحر: جھینگا مچھلی۔ بِجَرَادِهَا: تمام تر، یکسر۔ جَرِید: پتوں کے بغیر کھجور کی ٹہنیاں، کندہ نیزہ جو شہسواری کے کھیلوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جَـرِیْدَہ جمع جَـرَائِد: (جرید کا واحد) کھجور کا ڈنٹھل، فہرست، رجسٹر، بدلی جدول (roster)، فہرست مضامین، اخبار۔ جَرِیْدَۃ یَوْمِیَّۃ: روز نامہ، روزانہ اخبار۔ جرائدُ المساء: شام کے اخبار۔ الجریدۃ الناطقۃ و الجریدۃ السنمائیۃ: روزانہ خبروں کی فلم نیوز ریل (newsreal)۔ اُجْرُودِی: بے داڑھی، بے بالوں والا۔ مِجْرَد جمع مَـجَـارِد: کھرچنے یا چھیلنے کا آلہ (scraper)۔ تجرید: چھیلنا، چھلکا اتارنا، بے لباس کرنا، عریاں کرنا، برہنگی، عریانی، محرومی، برطرفی، موقوفی، سامان حرب پر پابندی، فوج کی تخفیف، تخفیف اسلحہ (disarmament)، فوجی دستوں کی ترسیل، آزاد کرنا، تنہائی، علیحدگی۔ تجرید من السلاح: نہتا کرنا۔ تَجْرِیْدَۃ جمع تَجْرِیدَات و تَجَارِید: فوجی دستہ، فوج کا مہماتی دستہ۔ تجرد من/علی: سے آزادی، تنہائی، غیر جانبداری، غیر مشروطی، انہماک، دھن، محویت، استغراق، علیحدگی۔ مـجـرَّد: عریاں، ننگا۔ — عن/من: سے آزاد، خالص، صرف، محض، نرا، سے زیادہ نہیں، تن تنہا، اصلی، عین، ٹھیک، حقیقی، وہی، کامل، مطلق، قیاسی، خیالی، بے غرض، بے غرضانہ، بے لوث۔ مُـجَـرَّدُ لَهْوٍ: محض کھیل، صرف دل لگی۔ بالعینِ المُجَرَّدَۃ: ننگی آنکھ سے۔ بِمُجَرَّدِ ما: جوں ہی، جس وقت، اسی لمحے جب۔

جرذ: ۱۔ جَرَذَ ـجَرْذًا الجُرْحُ: زخم کا سوج کر گلٹی دار ہو جانا۔ جَرَّذَ الشجرۃَ: درخت کی گانٹھیں چھیلنا۔ الجَرَذ: جانور کی کونچ کا زخم۔

۲۔ اَجْرَذَہُ اِلَیْہ: کو پر مجبور کرنا۔ — ہ: کو نکال دینا، علیحدہ کرنا۔

۳۔ الـجُـرَذ جمع جِـرْذَان (ح): ایک قسم کا چوہا۔ کہا جاتا ہے: تفرَّقت جرذانُ بیتہ: اس کے گھر کے چوہے منتشر ہو گئے۔ مراد: اس کا کھانا پینا کم ہوا یا اس کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا۔ وہ فقیر ہو گیا ہے۔

الجَرِذ مونث جَرِذَۃ: بہت چوہوں والی جگہ۔ المُجَرَّذ: آزمودہ کار، معاملات میں تجربہ کار۔

○ جُـرْذَل جمع جَـرَاذِل: بالٹی، ڈولچی، ڈول، چمڑے کا ڈول، گگرا، کاٹھ یا ٹین کا برتن۔

○ جُرَذ جمع جِرذان و جُرذان: بڑا چوہا۔ جِرذَون جمع جَرَاذِین: بڑا چوہا۔

جرز: ۱۔ جَرَزَ ـجَرْزًا: جلدی سے کھالینا۔ کہا جاتا ہے: جَرَزَ ما علی المائدۃ: جو کچھ دسترخوان پر تھا وہ سب چٹ کر گیا۔ جَرُزَ ـجَرَازَۃً: ایسا کھاؤ اور پیٹو ہونا کہ دسترخوان کو صاف کر کے اٹھے۔ الجَرُوز: وہ پیٹو جو دستر خوان پر کوئی چیز کھائے بغیر نہ چھوڑے، تیزی سے کھانے والا۔

۲۔ جَرَزَ ـجَرْزًا ہُ الزمانُ: کو زمانہ کا ہلاک کر دینا۔ — ہ: کو کاٹنا، جڑ سے اکھیڑنا، قتل کرنا۔ الـجَـرْزَۃ: ہلاکت۔ کہا جاتا ہے: رماہ اللہ بجزرۃ: اللہ اسے ہلاک کرے۔ الـجُـراز: تیز کاٹنے والی تلوار۔ المَجْرُوز من الأمکنۃ: وہ جگہ جس کی گھاس کاٹ لی گئی ہو۔

۳۔ جَرَزَ ـجَرْزًا ہ بالشتم: کو گالی دینا۔ جَارَزَ جِرازًا و مُجَارَزَۃً ہ: سے گالی کے مشابہ خوش طبعی کرنا۔ تَجَارَزَ القومُ: ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔

۴۔ جَرِزَ ـجَرَزًا تِ الارضُ: زمین کا بنجر ہونا صفت جارِزۃ جمع جَوَارِز۔ اُجْرِزَ المکانُ: جگہ کا قحط زدہ ہونا صفت مِجْراز۔ — البعیرُ: اونٹ کا دبلا ہونا۔ الـجَـرْز و الجَرَز و الجُرُز جمع اَجْـرَاز من الاراضی: نباتات نہ اگانے والی زمین، گھاس چری ہوئی زمین۔ کہا جاتا ہے: ارضٌ جـرزٌ و ارضٌ اَجْـرَازٌ: جس طرح ارضون اجراز کہا جاتا ہے۔ (نباتات نہ اگانے والی یا گھاس چری زمین یا زمینیں)۔ الجَرَز: قحط سالی کا سال، قحط کا سال۔

۵۔ الجُرْز جمع اَجْرَاز و جِرَزَۃ: لوہے یا چاندی کا ستون یا چھڑی۔ الـجُـرْز: عورتوں کا لباس۔ الـجَـرَز جمع اَجْرَاز: اونٹ کی پشت کا گوشت، انسان کا سینہ، جسم۔ کہا جاتا ہے: طوت الحیّۃُ اَجْرَازَها: سانپ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ طوی فلانٌ اَجْرَازَہ: فلاں آدمی نے سستی کی۔ الجُرْزَۃ جمع جُرَز: گٹھا، بنڈل۔

جرس: ۱۔ جَرَسَ ـجَرْسًا: بولنا، آواز سنانا۔ — الکلام: کلام کو راگ یا ترنم سے پڑھنا۔ اَجْرَسَ الحادی: حدی گانا۔ — الطائرُ: پرندہ کی اڑان کی آواز سنائی دینا۔ — الجَرَسَ: گھنٹی بجانا۔ — و انجرس الحَلْیُ: زیور کی جھنکار سنائی دینا۔

تَجَرَّسَ: بولنا، گفتگو کرنا، نغمہ سرائی کرنا۔ الجِرْس و الجَرْس جمع اَجْرَاس: آواز، پست آواز۔ الجَرَس جمع اَجْـرَاس: گھنٹی، گھڑیال۔ ذات الاَجْرَاس: زہریلا سانپ جس کی آواز گھنٹی جیسی ہوتی ہے۔ جُـرَیْس (ن): سفید یا بنفشی رنگ کے گھنٹیوں کی شکل کے پھولوں والا خوبصورت پودا۔ پھول سال بہ سال لگتے ہیں یا سدا بہار ہوتے ہیں۔ کرۂ ارض کے نصف شمالی میں پایا جاتا ہے اور مشرق وسطی میں بکثرت ہوتا ہے۔ اس کی بعض قسمیں آرائش کے لئے کاشت کی جاتی ہیں۔

۲۔ جَرَسَ ـجَرْسًا الشیءَ: کو زبان سے چاٹنا۔

۳۔ جَرَّسَ بِهِم: کو بدنام کرنا، عام لوگ جَوَّصَهم کہتے ہیں۔ الـتَّجْرِسَۃ: رسوائی، بدنامی، ہتک عزت۔ عوام کے سامنے بے نقابی، فضیحت، سکینڈل موجب رسوائی۔

۴۔ جَـرَّسَ ہ الـدهـرُ: زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنا دینا۔ المُجَرَّس: تجربہ کار۔ کہا جاتا ہے: ناقۃ مُجَرَّسَۃ: سدھائی ہوئی اونٹنی۔

۵۔ اِجْتَرَسَ المالَ: مال کمانا۔

۶۔ الجَرْس: کسی شئے کا حصہ۔ کہا جاتا ہے: مضی جَرْسٌ من اللیل: رات کا ایک حصہ گذر گیا۔ الجِرْس جمع اَجْرَاس: اصل۔ کہا جاتا ہے: هو من خیرِ جِرْسٍ: وہ شریف الاصل ہے۔ الـجَـارِسَۃ جمع جَوَارِس: گھاس کھانے والا کیڑا۔ الجَوَارِس: شہد کی مکھیاں۔

○ جَرَسَ ـجَرْسًا: (گھنٹی) بجنا، ماتمی جرس بجنا، آواز نکالنا، گونجنا۔ جَـــرَّسَ ہ: کو تجربہ کار بنانا، کو سخت آزمائشوں سے عادی بنانا، خوگر کر لینا، سختی سے آزما کر دیکھنا (زمانہ، حوادث کا)۔ — ب: کو مشتبہ بنانا، ذلیل کرنا، کی ذلت کا موجب ہونا، کی ساکھ ختم کرنا، کو بدنام کرنا، بے نقاب کرنا۔ جَرْس و جِرْس: آواز، سر۔ جَرَس جمع اَجْرَاس: گھنٹی۔

○ جِرْسَایَۃ و جِرْسِیَۃ جمع جِرسیات: جرسی، اونی سویٹر۔ جِرسیٌّ: جرسی کا کپڑا۔

جرش: ۱۔ جَرَشَ ـجَرْشًا الشیءَ: کو رگڑنا، چھیلنا۔ — الحبَّ و القمحَ: دانے اور گیہوں کو دلنا۔ — ت الأفعی اَنیابها: سانپ کا کینچلی سے نکلنے پر آواز سنانا۔ — جَرَّشَ الرأسَ: سر کھجلا کر اس کی بھوسی نکالنا۔ الجرش: سانپ کے کینچلی سے نکلتے وقت کی آواز۔ — جُراشَۃ الحبِّ: دلا ہوا دانہ، کنگھی کرنے سے سر سے نکلی ہوئی بھوسی۔ الـجَـرِیـش و المَجْرُوش: دلیا۔ الجاروش و الجارُوشۃ جمع جواریش (حی): ہاتھ کی چکی۔

۲۔ اِجْتَرَشَ الشيءَ: کو اچانک لینا۔ لِعِیالہ: اپنے بال بچوں کے لئے کمانا۔

۳۔ الجَرْش و الجِرْش و الجُرْش و الجُرُش جمع أجْراش و جُرُوش من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ الجوارِش (ط): جوارش (دواء)۔

○ جَرَشَ ـجَرْشًا ہ: کودلنا، پیسنا، کچلنا، کدوکش پر چھیلنا، رگڑنا۔ جَــرْش: کدوکش کرنے کی آواز، کھرچنے کی آواز۔ جَـرِیش: روا، دلیا، چوکر بھوسی، دلیا کیا ہوا، کچلا ہوا۔

جرض: ۱۔ جَرَضَ ـجَرْضًا ہ: کا گلا گھونٹنا۔ جَرِضَ ـ جَرَضًا: پھندا لگنا۔ (کہا جاتا ہے: هو يَجْرَضُ بنفسه: وہ قریب المرگ ہے)۔ ـ بريقه: غم ورنج کے باعث بدقت تھوک نگلنا۔ ـ رِيقَهُ: تھوک ایک دم نگل لینا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ يَجْرَضُ عليك ريقه غيـظًـا: فلاں شخص مارے غصے کے تم پر دانت پیستا ہے۔ أَجْرَضَ ہ بـريقه: کو اچھو لگنے کا سبب بنا۔ الجَرَض و الجَرِيض: پھندا لگانے والا تھوک۔ اور اسی سے یہ مثل ہے: حال الجريضُ دون القريض: غم ورنج شعر خوانی اور خوشی کے درمیان حائل ہو گیا۔ الجَرِيض جمع جَرْضَى: غم زدہ۔ کہا جاتا ہے: افلتَ فلانٌ جريضًا: فلاں شخص مرنے والا ہے۔ الجَرَّاض و الجِرياض و الجِرْآض: بہت غمگین۔

۲۔ الجُرْضُم و الجُراضِم: بہت کھانے والا، پیٹو۔ الجَرْضِم من النوق: موٹی اور فربہ اونٹنی۔ الجِرْضَم: پیٹو، موٹی اور فربہ اونٹنی۔

○ جَرِضَ ـجَرَضًا بريقه: تھوک نگلنے سے اس کا سانس بند ہوا، دم گھٹا، پھندا پڑ گیا، کھانا گلے میں اڑ گیا، وہ اپنا تھوک جوش، غم یا دہشت سے نہ نگل سکا، وہ بہت پریشان تھا، سخت اضطراب کی حالت میں تھا، بہت جذباتی تھا۔ جَرَضَ ـجَرْضًا ہ: کا گلا دبانا، ٹیٹوا دبانا، گلا گھونٹنا۔ أَجْرَضَهُ بريقه: کو دہشت زدہ کرنا، گھبرا دینا، کو اندیشوں سے بھر دینا۔ حَالَ الجريض دُونَ الـقـريـض: گلے میں پھندا لگنے نے اسے شاعری سے روک دیا یعنی موت کے سامنے کوئی شخص قافیہ پیمائی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔

جرع: ۱۔ جَرَعَ ـجَرْعًا و جَرِعَ جَرَعًا و اِجْتَرَعَ اِجْتِراعًا الماءَ: پانی یکبارگی پی جانا۔ جَرَّعَ ہ الماءَ: کو پانی گھونٹ گھونٹ کرکے پلانا۔ أَجْرَعَتِ الناقةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔ صفت مُجْرِع جمع مَجَارِع و مَجَارِيع۔ تَجَرَّعَ الماءَ: پانی تھوڑا تھوڑا کرکے پینا۔ ـ الغيظَ: غصہ پی جانا۔ الجُرعة و الجَرْعة و الجِرْعة من الماء: گھونٹ۔ الجُرَيْعة: چھوٹا سا گھونٹ، اسی سے یہ ضرب المثل ہے: ما افلتُّ منه إلا بجُريعة الذَّقَن: میں اس سے نہیں بچا مگر قریب المرگ ہو گیا پھر خلاصی پائی۔ مراد یہ ہے کہ میری جان منہ میں آ گئی اور میں مرنے لگا، لیکن بچ گیا اور چھٹکارا پایا۔

۲۔ الجَرْعَة جمع جَرَع و جِرْعـان و الجَرْعاء جمع جَرْعاوات و الأجْرَع جمع أجارِع: ریت کا ہموار میدان جہاں سبزہ و روئیدگی نہ ہو۔

○ جَرَعَ ـجَرْعًا و جَرِعَ ـجَرَعًا ہ: کو نگلنا، جلدی جلدی کھانا، ہڑپ کرنا، کھا جانا، پی جانا، (مشروب) منہ میں انڈھیلنا، ایک ہی گھونٹ میں پی جانا۔ جَرَّعَ ہ ہ: کو کوئی چیز نگلوانا یا پلانا۔ تَـجَـرَّعَ ہ: کو پینا۔ اِجْتَرَعَ ہ: کو نگلنا، پی جانا، بمشکل ضبط کرنا۔ جُرْعَة و جَــرْعَة جمع جُــرَع: گھونٹ، پینے والی دوا کی خوراک، دوا کی خوراک (dose)۔

جرف: ۱۔ جَرَفَ ـجَرْفًا و جَرَّفَ و تَجَرَّفَ و اِجْتَـرَفَ الـطـيـنَ: پھاوڑہ یا بیلچہ سے مٹی کھودنا یا کھرچنا۔ ـ الشيءَ: پوری چیز یا اس کا اکثر حصہ لیجانا۔ أُجْرِفَ المكانُ: کسی جگہ کا سیلاب زدہ ہونا۔ الجُرُف جمع جِرَفَة و الجُرْف جمع أجْرُف: دریا کا کنارہ جسے پانی نے ڈھا کر کھوکھلا کر دیا ہو۔ اور اسی سے یہ قول: فلانٌ يبنـي علـى جرفٍ هارٍ لايدري ماليلٌ من نهارٍ: فلاں شخص دریا کے ڈھینے والے کنارہ پر مکان بناتا ہے اور اسے دن رات کی تمیز نہیں۔ الجراف من السيل: ہر چیز کو بہالیجانے والا سیلاب۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ جُرافٌ: تمام کھانا ہڑپ کر جانے والا آدمی۔ ـــ و الجراف: ایک قسم کا پیمانہ۔ الجارِف (فا): طاعون۔ ہمہ گیر تباہی مچانے والی موت، آفت (مجازا)۔ المِجْرَف و المِجْرَفَة (حی): جھاڑو، بیلچہ، پھاوڑہ۔ الجَرَّاف: بہت تیزی سے بہالیجانے والا۔ الجارُوف مونث جاروفة: بہت تیزی سے بہالیجانے والا، منحوس، سب کھانا ہڑپ کرنے والا پیٹو۔ المُجَرَّف و المُجْتَرَف: وہ غریب جس کو انقلاب زمانہ نے مال ومتاع سے تہی دست کر دیا ہو۔

۲۔ أَجْرَفَ الـراعـي: چرواہے کا اونٹوں کو گنجان گھاس چرانا۔ الجَرْف: گنجان گھاس، اونٹ پر لگا ہوا داغ: مویشی، سونے چاندی وغیرہ پر مشتمل مال، سرسبزی۔

۳۔ جَرَفَ ہ: کو پچھاڑنا۔ ـ الشيءَ: کو جڑ سے کھانا۔

○ جَرَفَ ـجَرْفًا و اِجْتَرَفَ ہ: کو بہا لیجانا، زور سے لیجانا، کو پھاوڑے وغیرہ سے ہٹانا، کو دور کرنا، ساتھ لیجانا۔ اِنْجَرَفَ: بہہ جانا، دور چلے جانا۔ جُرُف و جُرْف جمع جُرُوف و أجراف: نیچے سے کٹا ہوا کنارا یا ساحل، کھڑی چٹان، سیدھی ڈھلان، دریا یا ساحل کے ساتھ کھڑی چٹان۔ جـرفٌ جليدي: برفانی تودہ۔ جَرَّافَة جمع جَرَّافات و جَوارِيف: جیلی، کریدنی، سہاگہ۔ مَجْرَف جمع مَجارِف: تیز دھارا، تیز لہر۔ مِجْرَفَة: بیلچہ، کرچھا، کفچہ، کدال، گہرا کھرپا۔ مِجْراف جمع مَجارِيف: بیلچہ، کرچھا، کفچہ۔ جَـــارِف: تند و پرشور (دریا، نالہ، پہاڑی ندی) طوفانی، بے قابو (جذبات واحساسات)۔

○ الجَرْكَس: شمال مغربی قفقاس اور بحر اسود کے مشرقی ساحل پر بسنے والے لوگ، جن کی اغلبیت ترکی، شام اور اردن ہجرت کر گئی تھی۔ جَرْكَسِي جمع جَرَاكِسَة: جرکسی یا شرکسی (صفت واسم)۔

جرل: ۱۔ جَرِلَ ـجَرَلاً المكانُ: جگہ کا سخت اور کرخت ہونا۔ الـجَرَل جمع أجْرال: کھردری زمین، بہت پتھروں والا (علاقہ)۔ الـجَـرْوَل جمع جَـرَاوِل: پتھریلی زمین۔

۲۔ الجِرْيال و الجِرْيالَة: شراب، شراب کا رنگ۔

جرم: ۱۔ جَرَمَ ـجَرْمًا الشيءَ: کو کاٹنا۔ ـ الناقةَ: اونٹنی کی اون کترنا۔ جَرَّمَ ہ: کو کاٹنا۔ الـجريمة من الأشجار: کٹا ہوا درخت۔

۲۔ جَرَمَ ـجَرْمًا و جِرَامًا النخلَ: کھجوریں توڑنا۔ جَرِمَ ـجَرَمًا: گری ہوئی کھجوریں کھانے لگنا۔ الـجَرَام و الجُرام و الجَرِيم: خشک کھجور۔ جُرامة النخل: توڑتے وقت گرنے والی کھجوریں۔ الجَرِيمة: گٹھلی۔

۳۔ جَرَمَ ـجَرْمًا الشيءَ: کو پورا کرنا۔ تَجَرَّمَ الزمانُ او الشتاءُ: زمانے یا جاڑے کا گزر جانا۔ مُجَرَّم: پورا، کامل۔ کہا جاتا ہے: عامٌ مُجَرَّمٌ: پورا سال، کامل سال۔

۴۔ جَرَمَ ـجَرْمًا و اِجْتَرَمَ لأهله: اپنے اہل وعیال کے لئے کمانا۔

۵۔ جَرَمَ ـجَرِيمَةً و أَجْرَمَ و اِجْتَرَمَ اليه و عليه: سے گناہ کرنا۔ جَرُمَ ـجَرِيمَةً: بڑے جرم والا ہونا۔ جَرَّمَ ہ و تَجَرَّمَ عليه: پر جرم کا الزام لگانا۔ الجَرم و الجُرْم جمع جُرُوم و أجْرام: غلطی، گناہ۔ کہا جاتا ہے: لا جَرَمَ و لاجُرْمَ: ضروری، یقینی، ناگزیر، کبھی قسم کے معنی دیتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: لا جَـــرَمَ

لَأَفْعَلَنَّ: قسم خدا کی میں ایسا کر کے رہوں گا۔
الجَرِیم مونث جَرِیمَة جمع جِرام: گنہگار۔
الجَرِیمَة: جرم، گناہ۔
۶۔جَرِم ـجَرَمًا لونه: رنگ کا صاف ہونا۔الجِرْم جمع أَجْرام و جُرُم و جُرُوم: رنگ۔
۷۔الجَرْم جمع جُرُوم: چھوٹی کشتی، ڈونگا، سخت گرم زمین۔و الجُرُوم من البلاد: سخت گرم ممالک اس کے مقابل الصُّرُود ہے۔جس کا معنی سرد ممالک ہے۔
الجِرْم جمع أَجْرام و جُرُم و جُرُوم (فلک): ستارہ جانور وغیرہ کا جسم۔الجَرِیم مونث جَرِیمَة جمع جِرام: بڑے جسم والا۔
۸۔جَرْمَزَ و اِجْرَمَّزَ الرجلُ: سکڑنا، سمٹنا، بھاگنا، پیچھے ہٹنا، جواب میں غلطی کرنا۔الجَرامِیز من الحَیْوان: جانور کی ٹانگیں۔کہا جاتا ہے ضَمَّ الثورُ جَرامِیزَهٗ: بیل نے اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں۔اَخَذَهٗ بِجَرامِیزِهٖ: اس نے اس کا سب کچھ لے لیا۔
۹۔الجُرْمُوق: موزہ، موزہ کے اوپر پہنا جانے والا بڑا موزہ (فارسی لفظ) عام لوگ اسے اکالوش کہتے ہیں۔
◌ جَرَمَ ـجَرْمًا اللحمَ: گوشت سے ہڈیاں جدا کرنا۔ـــ علی/الی: کے خلاف جرم یا سخت ظلم کا ارتکاب کرنا، کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، کے خلاف ارتکاب گناہ کرنا، پر ظلم کرنا، کو نقصان پہنچانا۔جَرَّمَهٗ: کو ملزم قرار دینا، پر جرم کا الزام لگانا۔اَجْرَمَ علی/الی: کے خلاف جرم یا گناہ کا ارتکاب کرنا، پر ظلم کرنا، کو نقصان پہنچانا۔اِجْتَرَمَ: بمعنی أَجْرَمَ۔
جَرْم جمع جُرُوم: لمبے، چپٹے پیندے والا، بجرا، سامان اتارنے کی کشتی۔جِرْم جمع أَجْرام و جُرُم: جسم، ڈھیر، بیشتر حصہ، حجم جسامت (جسم کی)۔الاجرام الفلکیّة: ستارے، اجرام فلکیہ۔جُرْم جمع أَجْرام و جُرُوم: جرم، گناہ، قصور۔لاجَرَمَ: یقینا، لازما، قطعا، بے شک۔جَرِیم: بے ڈول، ضخیم، بہت بڑا، بہت وسیع، طول طویل، بڑے سائز کا۔جَرِیمَة جمع جَرائم: جرم، گناہ، قصور۔جریمة کُبْرَی یا عُظْمَی: مستوجب قتل جرم۔قانونُ الجَرائِم: تعزیری ضابطہ (قانون)۔اِجْرام: جرم، سزا کا مستوجب ہونا، لائق تعزیر ہونا، خطا، قصور، تقصیر، گناہ۔
اِجْرامِی: مجرمانہ، مجرم۔لحمٌ مَجْرُوم: ران یا پٹھے کا گوشت، مچھلی کا قتلہ۔سنةٌ مُجَرَّمَة: پورا سال۔مُجْرِم: مجرمانہ جمع مجرمون: مجرم، گنہگار، خطاکار۔مُجْرِم عائِدٌ: وہ مجرم جو تائب ہو کر پھر جرم کا ارتکاب کرے۔جَرامِز و جَرامِیز: اعضاء

ٹانگیں۔ضَمَّ جرامیزہ: وہ فوراً چلا گیا، وہ بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔
◌ الجَرْمان: جرمن قبائل۔جَرْمانی: جرمنی، جرمن کا۔
جرن: ۱۔جَرَنَ ـجرونا علی الأمر: کا عادی ہونا، میں تجربہ کار ہونا، کی تربیت پانا (کہا جاتا ہے جرنت یده علی العمل: اس کا ہاتھ کام میں تجربہ کار ہو گیا)۔ـــ الثوبُ: نرم و خستہ ہونا، بوسیدہ ہونا۔الجارن من المتاع: مستعمل و بوسیدہ سامان، مٹے ہوئے نشانات والا راستہ۔سِقاءٌ جارِنٌ: سوکھی اور سخت چمڑے والی مشک۔الجارنة جمع جَوارِن و جارِنات من الدُّرُوع: نرم زرہ۔المُجَرَّن من السیاط: نرم اور چکنا کوڑا۔
۲۔جَرَنَ ـجَرْنًا الحبَّ: غلہ پیسنا۔أَجْرَنَ الحبَّ: غلہ کو کھلیان میں جمع کرنا۔ـــ التمرَ: کھجوریں خشک کرنے کی جگہ میں جمع کرنا۔اِجْتَرَنَ: کھلیان بنانا۔الجُرْن و الجَرِین جمع جُرُن: کھلیان، کھجوروں وغیرہ کی سکھانے کی جگہ۔الجُرْن جمع أَجْران و جِران: پتھر کا تسلا، ہاون، کونڈی، کھرل، اوکھلی۔المِجْرَن: کھلیان۔
۳۔الجارِن: سانپ کا بچہ۔الجِران جمع جُرُن و أَجْرِنَة من البعیر: اونٹ کی گردن کا سامنے کا حصہ۔کہا جاتا ہے ألْقَی البعیرُ جِرانَهٗ: اونٹ بیٹھ گیا۔ألْقَی فلانٌ علی هذا الأمر جِرانَهٗ: فلاں شخص اس امر کا خوگر و عادی ہو گیا۔ضَرَبَ الاسلام بجرانه: اسلام نے اپنے قدم جما لئے۔ضَرَبَ اللیل بجرانِهٖ: رات آگئی۔ألْقَی علیه جِرانَهٗ: اس نے اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا۔المِجْرَن من الرجال: پیٹو، بہت کھانے والا۔
◌ جُرْن المعمودیة: اصطباغی پانی کا برتن، بپتسمہ کے پانی کا برتن۔ضَرَبَ بِجِرانه: قدم جمانا، جڑ پکڑنا، مستحکم ہونا۔ألْقَی علیه جرانه: تندہی سے کوئی کام کرنا، سے ہم آہنگ ہونا، کا عادی و خوگر ہونا۔
◌ جُرْنال جمع جَرانِیل: جرنل، اخبار، روزنامچہ، روزنامہ، ہفتہ وار، ماہوار، سہ ماہی، شش ماہی سالانہ اخبار یا رسالہ۔
جرہ: جَرْهَدَ و اِجْرَهَدَّ فی السیر: تیز چلنا۔
الجَرْهَد و الجُراهِد: چست چلنے والا۔
جرا: أَجْرَی اِجْراءً الکلبةُ: کتیا کا پلوں والی ہونا یا پلوں کا اس کے ساتھ ہونا۔الجِرْوُ (بتثلیث الجیم): جمع جِراء و أَجْرٍ و جمع الجمع أَجْرِیَة: ہر چھوٹی سی چیز حتی کہ انار اور خربوزہ بھی۔لیکن عموماً کتے اور

شیر کے بچے کے لئے مستعمل ہے۔الجَرْوَة (بتثلیث الجیم): جرو کا مونث۔کہا جاتا ہے: ضرب علی الامر جَرْوَتَهٗ: وہ اس کام کا عادی ہو گیا اس پر صبر و استقلال دکھایا۔ضرب جروته عنه: اس نے اس پر صبر کر لیا۔کلبةٌ مُجْرٍ و مُجْرِیَة: پلوں والی کتیا، کتیا جس کے ساتھ پلے ہوں۔
◌ جَرْو و جِرْو و جُرْو جمع أَجْرٍ و جِراء و أَجْراء و أجریة: کتے کا پلا، شیر، بھیڑیے، چیتے وغیرہ کا بچہ، ریچھ یا کسی اور درندے کا بچہ۔
◌ جَرْوَسَة: بارہ درجن۔
جری: ۱۔جَرَی ـجَرْیًا و جَرَیانًا و جِرْیَةً الماءُ: پانی کا بہنا۔کہا جاتا ہے۔نهرٌ سریعُ الجِرْیَة: تیز بہنے والا دریا۔جَرَّی و أَجْرَی الماءَ: پانی بہانا۔
الجاری (فا): جو خشک نہ ہو۔ہم کہتے ہیں نهرٌ جارٍ: دریا جو خشک نہ ہو۔الجاریة جمع جاریات و جَوارٍ: جاری کا مونث۔المَجْرَی جمع مَجارٍ: پانی بہنے کی جگہ۔
۲۔جَرَی ـجَرْیًا و جَرَیانًا و جِرْیَةً الفرسُ و نحوه: گھوڑے وغیرہ کا دوڑنا۔اِسْتَجْرَی فلانًا: کسی سے چلنے کی خواہش کرنا۔الجاریة جمع جاریات و جَوارٍ: لونڈی، لڑکی، بچی، باندی۔الجَرایَة و الجَراء و الجِراء: شباب، جوانی۔کہا جاتا ہے: جاریة بیِّنةُ الجَرایة: نمایاں شباب والی لونڈی۔
الجَرِیّ جمع أَجْرِیاء: مزدور۔
۳۔جری ـجَرْیًا و جَرَیانًا و جِرْیَةً: چلنا، گزرنا۔جاراہ و تجاریا: کسی کے ساتھ چلنا، ساتھ ساتھ چلنا، (دو شخصوں کا)۔کہا جاتا ہے الدین و الرهن یتجاریان: قرض و رہن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔
الجاری (فی المکاتبات): رواں۔ہم کہتے ہیں: الشهر الجاری: ماہ رواں۔الجاریة جمع جاریات و جوار: کشتی، سورج، سانپ۔المَجْرَی جمع مجارٍ: گزرگاہ۔مَجْرَی الشمس: سورج کی گزرگاہ۔الإجْرِیّا و الإجْرِیاء: چلنے کا طریقہ، افتاد طبع، طبیعت۔کہا جاتا ہے: جری علی اجریاه و اجریائه: وہ اپنی افتاد طبع کے مطابق چلا۔
۴۔جَرَی ـجَرْیًا و جَرَیانًا و جِرْیَةً الامرُ: کسی معاملہ کا وقوع پذیر ہونا۔أَجْرَی القِصاصَ: قصاص لینا۔الجِرایَة: وظیفہ۔الماجَرَیات: حوادث، واقعات، اس کی اصل ماجَرَی ہے۔کہا جاتا ہے: کانت بینهم مناظرات و ماجریات یطول

شرحها: ان کے درمیان بحثیں اور واقعات ہوئے جن کی تشریح طویل ہے۔

۵ـ جری ـ جَرْیًا و جَرَیَانًا و جِرْیَةً إلی الشيء: کا قصد کرنا۔ أجری إلی الشيء: کا قصد کرنا۔

۶ ـ جَرَّی فلانًا: کو اپنی طرف سے وکیل بنا کر بھیجنا۔ أَجْرَی الامر إلی فلان: کوئی کام کسی کے سپرد کرنا یا کسی کی طرف منسوب کرنا۔ إسْتَجْرَی فلانًا: کو وکیل بنانا۔ الجَرِيّ جمع أَجْرِیَاء: وکیل، ضامن۔ (کہا جاتا ہے هو جَرِيٌّ له: وہ اس کا ضامن ہے)، پیغامبر۔ الجِرَایَة و الجَرَایَة: وکالت۔ الجَرْي: کہا جاتا ہے مِن جَرَاكَ او مِن جَرائِكَ: تمہاری وجہ سے۔

۷ ـ أَجْرَی لہ الحسابَ: کسی کا حساب رجسٹر میں درج کرنا۔ ــ علیه الحسابَ: کے ذمے کچھ نکالنا۔ الحساب الجاري (ت): تاجر کا اپنے ایجنٹ کے نام کھولا ہوا کھاتہ۔

۸ ـ أَجْرَی الکلمةَ: کلمہ کو منصرف کر دینا۔

۹ ـ أُجْرِی علیه الرزق: کو رزق دینا یا کا رزق مقرر کرنا۔ الجِرَایَةُ: فوجی کا راشن۔

۱۰ ـ أُجْرَی الأمرَ: کام کو جاری و نافذ کرنا۔ جارَاہ و تَجارَیَا في الامرِ: سے کسی کام میں متفق ہونا، دونوں کا کسی معاملہ میں اتفاق کرنا۔

۱۱ ـ الجاري: ترکی خطاطی کی ایک قسم جو اوپر سے نیچے کو لکھا جاتا تھا اور شاہی فرمان کے لئے مستعمل تھا۔ الجِرِّيّ و الجِرِّيث (ح): لمبی دریائی مچھلی جسے مصر میں ثعبان الماء (بام مچھلی) کہا جاتا ہے۔ اس میں سر اور ریڑھ کی ہڈی کے سوا کوئی ہڈی نہیں ہوتی۔ حنکلیس کے نام سے معروف ہے۔ الجِرِّیَة (ع ا): پوٹا (پرندے کا)۔

○ جری ـ جَرْیًا: (پانی) کا بہنا، (کا) دریا بہنا، (پانی کی دھار) گرنا، دوڑنا، جلدی کرنا، آگے بڑھنا، دوڑ پڑنا، واقع ہونا، (کام) کا جاری رہنا، ہو رہا ہونا ــــ لِ: پر پڑنا، کو پیش آنا ــــ: گردش میں ہونا، پھیلنا، رائج الوقت ہونا، رائج ہونا، رواں ہونا، تازہ یا حالیہ ہونا، چالو ہونا ــــ إلی: کی راہ لینا، کی طرف جانا، کی طرف بڑھنا ــــ علی: کے مطابق کرتے رہنا۔ مع: کے پیچھے ہونا، آنا یا کے بعد ہونا، (خواہش وغیرہ) کے آگے جھک جانا، (کو) مان جانا ــــ ب: کا لازم یا قدرتی نتیجہ ہونا ــــ وراء: کے پیچھے ہونا، کے پیچھے دوڑنا، کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ جری لہ حدیث مع: اس نے کے ساتھ بات چیت کی۔

جَرَیٰ مَجْرَاہُ: اس جیسا راستہ اختیار کرنا، اس جیسے راستہ پر چلنا، اس جیسے طریقے پر عمل کرنا، کا مماثل یا مشابہ ہونا۔ جَرَی مِنهُ الشيءُ مَجْرَی الدَّم: یہ اس کی دوسری فطرت بن چکی تھی۔ جَرَیٰ عَلَی الألْسُن: (افواہ) کا پھیلنا، گردش کرنا۔ جَرَی علی کُلِّ لِسانٍ: ہر ایک کی زبان پر ہونا، ہر ایک کے ہونٹوں پر ہونا۔ جَری علی خِطَّةٍ: منصوبہ پر عمل کرنا۔ مایجری علیه العملُ: طریقہ جس سے کام لیا جاتا ہے یا جس سے نبٹا جاتا ہے۔ جو عام دستور ہو۔ جری به العملُ: مؤثر ہونا، چالو ہونا، نافذ العمل ہونا، ضابطہ کے مطابق ہونا، پر عام طور پر عمل کیا جانا (قانون، رواج کا)۔ جرت العادة ب: دستور کے موافق ہونا، حسب معمول ہونا، عام دستور ہونا، عام قاعدہ ہونا، روزمرہ کی چیز ہونا، دستور ہونا۔ جری بالعادة علی: کو حسب معمول کرنا، کو کرنے کا عادی ہونا۔ جَرَتْ بِذٰلِكَ عَادَتُهُم: یہ ان کی عادت تھی۔

جَرَّی: دوڑانا۔ جَرَّی رِیقَهُ: کسی کے منہ میں پانی بھر آنے کا باعث بننا (کھانے کی خوشبو) سے منہ میں بھر آنا)۔ جاراہ في: کسی معاملہ میں کسی سے اتفاق کرنا، متفق ہونا، ہم آہنگ ہونا ــــ ہ: کے برابر چلنا، کا ساتھ دینا، کی رفتار سے چلنا۔ (ذہنی طور پر بھی) ــــ ہ: کا اتباع کرنے کے قابل ہونا ــــ ہ: کے ساتھ ساتھ جانا، سے رہنمائی حاصل کرنا۔ أَجْرَی ہ: کو بہانا ــــ ہ/ ہ: کو دوڑانا، کو چالو کرنا ــــ ہ: کو واقع کرنا، کا باعث ہونا، (قوانین، قواعد) بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، کو نافذ کرنا، پر سختی سے عمل کرنا، پر عمل درآمد کرانا کو چسپاں کرنا، (کارروائی) کرنا، (منصوبہ) چلانا، چالو کرنا، (منصوبہ) جاری کرنا ــــ ہ ل/علی: کو کی طرف موڑنا، کو کوئی چیز عطا کرنا، کو (روپیہ، جائداد) حسب ضابطہ یا رسمی طور پر دینا ــــ ہ علی: (جرمانہ وغیرہ) کو کسی پر عائد کرنا، لگانا۔ أَجْرَی تجربةً: تجربہ کرنا۔ أَجْرَی تحقیقًا: تحقیقات کرنا۔ أَجْرَی لَهُ اعانةً: کو امدادی رقم دینا۔ أَجْرَاہ مَجْرَی ـ: سے کسی جیسا سلوک کرنا، کو کے برابر درجہ دینا۔ جَرْی: رفتار، روش۔ جَرْیًا علی: کے مطابق۔ مِنْ جَرَاكَ و مِن جَرائِكَ: تمہاری وجہ سے، تمہاری خاطر۔ جَرَّاء: دوڑنے والا، گھوڑ دوڑ کا گھوڑا دوڑانے والا، شرط بد کر دوڑانے والا۔ جِرَایَة جمع جِرَایات: روزانہ (خوراک)، راشن، تنخواہ۔ عَیْش جِرَایة: خراب روٹی۔ جَرَیان: بہاؤ، رفتار، دھارا۔ مَجْرَی جمع مَجَارٍ: راستہ، بندی، دریا، نالی، نالی، پانی کا تیز دھارا یا سیلاب، پائپ لائن، نہر، رود بار، آبنائے، دریا کا راستہ، دریا کی گذرگاہ، گندہ نالہ، بدرو، گندے نالے کے پانی کے نکاس کا نظام، پاور لائن، (برقی) کرنٹ، دریا کا دھارا، لہر، رفتار حالات، گزرنا، ترقی۔ مجری البَوْل: مثانہ سے پیشاب کے اخراج کی نالی۔ مَجارِي التنفس: نظام تنفس۔ مَجْرَی الهواء: ہوا کی رو، ہوا کا جھونکا، ہوا کی لہر، ہوا کا دھارا۔ أَخَذَ مَجْرَاہ: معمول کے مطابق نشوونما پانا، معمول کے انتظام کی طرف بڑھنا۔ ماجریات (ماجری کی جمع): رفتار حالات، واقعات۔ مُجاراة: (کا) ساتھ دینا، (کی) رفتار سے چلنا، (کی) تعمیل۔ مُجاراةً لِ: کی تعمیل میں، کے مطابق۔ إجراء: (کارروائی) کرنا، عمل میں لانا، نفاذ، عملدرآمد، جمع اجراءات: اقدامات، کارروائی، مقدمہ، نالش۔ اتخذ اجراءات: اقدامات کرنا۔ اجراءات قانونية: قانونی اقدام، قانونی کارروائی۔ جارٍ: بہتا ہوا، دوڑتا ہوا، دوڑنے والے، بہنے والا، پھیلنے والا، رواں، موجود۔ الشهر الجاري: ماہ رواں، اس ماہ، موجودہ مہینے۔ جارِیَة جمع جارِیات و جوارٍ: لڑکی، لونڈی، کنیز، دوشیزہ، بن بیاہی عورت جو ملکہ یا شہزادی کی مصاحب ہو، مصاحبہ، نوکرانی، ملازمہ، خادمہ، کشتی، جہاز۔

جز: جَزَّ ـ جُزُوزًا التمرُ: کھجور کا خشک ہونا۔ ــ الغنمُ او البُرُّ او النخلةُ: بھیڑوں کے بال یا گیہوں یا کھجور کے درخت کا کترنے یا کاٹنے کے وقت پر پہنچنا۔ جَزًّا و جَزَزًا و اجْتَزَّ الصوفَ او العشبَ او النخلَ: اون یا گھاس یا کھجور کا درخت کاٹنا، کترنا۔ أَجَزَّ الغنمُ او البُرُّ او النخلةُ: بمعنی جَزَّ الغنم او البُرّ او النخلة ــ القومُ: قوم کی بھیڑوں کے بال کترے ہوئے ہونا یا ان کی کھیتی کا کٹا ہوا ہونا ــــ التمرُ: کھجور کا خشک ہونا۔ إسْتَجَزَّ الغنمُ او البُرُّ او النخلةُ: بمعنی جَزَّ الغنم او البُرّ او النخلة: الجِزَّة جمع جِزَز و جَزائز: سال میں بکری کی کتری ہوئی اون۔ (و عند العامة): شہتوت کے پتے جو ریشم کے کیڑوں سے بچ رہیں۔ الجَزَز: استعمال میں نہ لائی ہوئی اون۔ الجُزَاز و الجُزَازة: کٹنے کے وقت زمین پر گری ہوئی اون۔ جُزَازٌ من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ الجَزَاز و الجِزَاز: کٹائی، کتائی کا وقت، کاٹنے کا وقت۔ الجَزُوزَة جمع جُزُز من الغنم: وہ بھیڑ جس کی اون کتری جائے۔ الجَزِیز: کترا ہوا، کاٹا ہوا۔

الجزِیزَة: اون کا گچھا۔الجزّاز: کترنے یا کاٹنے والا۔المِجزّ: کترنے یا کاٹنے کا آلہ، قینچی۔

○ جَزّ ـجَزّاً ہ: کو کاٹنا، کترنا، تراشنا (قینچی سے)، خصوصاً: بھیڑ کو مونڈنا۔جِزَّۃ جمع جِزَز و جزائز: مونڈی ہوئی اون، بھیڑ کی اون، پشم۔مِجزّ: اون مونڈنے کی قینچی۔

جزا: ا۔جَزَأ ـجَزْءاً الشیءَ: کو اجزاء میں تقسیم کرنا، کا ایک جزو لینا۔جَزّأ تجزئۃً و تجزیئاً الشیءَ: کو تقسیم کرنا۔تجزّأ: تقسیم ہونا۔الجزء (مص) بعض۔الجُزء جمع اَجزاء و الجَزء و الجُزاء: چیز کا ایک حصہ۔الجُزأۃ: برے وغیرہ کا دستہ۔

الجُزئیّ: جُزوی۔الجُزئیۃ جمع جُزئیات: کلیہ کی ضد۔

۲۔جَزَأ و تَجزّأ و اِجتزأ بالشیءِ: پر اکتفاء کرنا، پر قناعت کرنا۔جزّأہ بالشیءِ: کو پر اکسانا، کو پر آمادہ کرنا۔کہا جاتا ہے: جزّأ الماشیۃَ بالرطب عن الماء: اس نے مویشی کو تر گھاس چرنے پر آمادہ کیا اور مویشی نے پانی کے بجائے سبز گھاس پر اکتفاء کر لیا۔

أجزأہ بالشیءِ: بمعنی جزّأہ بالشیء۔۔ عنہ: سے بے پرواہ ہونا۔الجَزْء: کفایت۔کہا جاتا ہے: لک فی ھذا غناءٌ و جزءٌ: تمہارے لئے بس یہی کافی ہے۔المَجزأ و المَجزأۃ و المُجزأ و المُجزأۃ: چیز کا کافی ہونے والا حصہ، بقدر کفایت حصہ۔کہا جاتا ہے: أجزأ مَجزأ فلان و مُجزأہ و مَجزأتہ و مُجزأتہ: وہ فلاں کا قائم مقام و نائب ہوا۔الجُزئ و المُجزئ من الطعام: سیر و آسودہ کرنے والا کھانا۔الجَوازِئ: تر گھاس کھا کر بہت حد تک پانی سے بے نیاز ہو جانے والی نیل گائے۔

○ جزأ و اِجتزأ ب: پر صابر، صابر شاکر، قانع، مطمئن، یا راضی ہونا۔جزّأ ہ: کو تقسیم کرنا۔تجزّأ: تقسیم ہونا، علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔۔ عن: سے منقسم ہونا، تقسیم پذیر ہونا، سے الگ ہو سکنا، انفعال پذیر ہونا۔جُزء جمع اَجزاء: حصہ، جزو، لازمی جزء، جزو، جزو ترکیب، مشتمل حصہ، کسر، قرآن مجید کا تیسواں حصہ، پارہ۔

جُزئی: جزوی، معمولی، چھوٹا، غیر اہم۔جُزئیاً: کسی حد تک تھوڑا، ایک حصہ۔جزئیات: تفاصیل، جزئیات، باریکیاں، معمولی چیزیں، ماتحت حصے، (عدالت کے) ڈویژن، سیکشن۔مواد جزئیۃ: چھوٹے مقدمات۔محاکم جزئیۃ: سرسری انصاف کی عدالتیں۔حادثۃ جزئیۃ: چھوٹا یا معمولی ماجرا، واقعہ۔تسویۃ جزئیۃ: جزوی ادائیگی۔

الجزئیات و الکلیات: مخصوص اور عام پہلو، چھوٹے اور بڑے مسائل۔جُزَیْءٌ جمع جُزَیْئات: ریزہ، ذرہ، سالمہ۔أجزائی جمع أجزائیون: دواساز، دوافروش، عطار، پنساری۔اجزاجی جمع اجزاجیہ: دواساز، دوافروش، عطار، پنساری۔

اجزائیۃ و اجزاخانۃ: دواؤں کی دکان، عطار خانہ، دواسازی، عطاری۔تجزئۃ: تقسیم، علیحدگی، جدائی، قطع تعلق، اظہار بیزاری، مدات، اراضی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔قابل لتجزئۃ: قابل تقسیم۔قابلیۃ التجزئۃ: قابل تقسیم ہونا۔تاجر التجزئۃ: پرچون فروش، خوردہ فروش۔

○ جُزدان و جزدان جمع جزدانات: بٹوا، توشہ دان۔

جزح: ا۔جَزَحَ ـجَزْحاً الرجلُ: اپنے کام کے لئے جانا۔۔ ت الظباءُ: ہرنیوں کا جھاڑی میں داخل ہونا۔

۲۔جَزَحَ ـجَزْحاً الرجلُ: بہت سا عطیہ دینا۔لہ من المال: کو مال کا کچھ حصہ دینا۔الجَزْح (مص): عطیہ۔

جزد: الجذدان: جزدان، بستہ، کیس، تھیلی (جس میں نقدی رکھی جاتی ہے)۔(ترکی لفظ)۔

جزر: ا۔جَزَرَ ـجَزْراً و جَزاراً و جِزاراً و اِجتزرَ الشاۃَ: بکری ذبح کرنا۔أجزرَ فلاناً: کو بکری ذبح کرنے کے لئے دینا۔تجزّروا ھم و اِجتزروا ھم فی القتال: کو میدان کارزار میں درندوں کی غذا بننے کے لئے چھوڑ دینا۔الجَزْر (مص): ذبح کرنا۔الجَزَر (واحد جَزَرۃ): وہ جانور جس کا ذبح کرنا جائز ہو، ذبح کی ہوئی چیز۔جَزَرُ السباع: وہ گوشت جس کو درندے کھائیں۔کہا جاتا ہے: ترکوھم جزراً: انہوں نے ان کو بیابان میں قتل کر ڈالا۔الجَزور جمع جُزُر و جَزورات و جَزائر: ذبح کے لئے اونٹنی یا بکری۔الجزّار و الجَزیر: ذبح کرنے والا۔الجُزارۃ: ذبح کئے جانے والے جانور کے اطراف جیسے: سری پائے (جنہیں قصاب اپنی اجرت کے طور پر لے لیتا ہے)، قصاب کی اجرت۔الجِزارۃ: ذبح کرنے کا پیشہ۔المَجزِر جمع مَجازِر: بوچڑ خانہ، مذبح، ذبح کرنے کی جگہ، جسے مسلخ بھی کہتے ہیں۔

۲۔جَزَرَ ـالنخلۃَ جَزْراً: کھجور کے درخت کو کاٹنا۔اَجزرَ النخلُ: کھجور کے کاٹنے کے وقت کا قریب ہونا۔۔ الشیخُ: بوڑھے کی موت کا وقت قریب آ پہنچنا۔

۳۔جَزَرَ ـجَزْراً الماءُ: پانی کا خشک یا کم ہونا۔۔ البحرُ: سمندر کا پیچھے ہٹنا۔الجَزْر: بھاٹا، مد (جوار) کی ضد۔المَجزَر: وہ جگہ جہاں سے مد (جوار) لوٹے۔الجزیرۃ جمع جزائر و جُزُر و جُزْر: وہ زمین جہاں سے پانی پیچھے ہٹ جائے، زمین جس کے چاروں طرف پانی ہو، جزیرہ۔

۴۔تجازرا: ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔

۵۔الجَزَر و الجِزَر (ن): گاجر۔

○ جَزَرَ ـجَزْراً: ذبح کرنا۔۔ ہ: جانور، ذبح کرنا۔ـجَزْراً: (پانی کا) دھنسنا، کم ہونا، گرنا، بیٹھ جانا، گھٹنا، ختم ہونا، اترنا۔جَزْر: ذبح، ذبح کرنا (سمندر کا) اترنا، بھاٹا۔جَزَرۃ: خون کی قربانی۔جَزور جمع جُزُر: ذبح کیلئے اونٹ۔جزّار جمع جزّارۃ و جزّارون: قصائی، قصاب۔جزیرۃ جمع جزائر و جُزُر: جزیرہ، ٹاپو۔شبہ جزیرۃ: جزیرہ نما، خشکی کا وہ حصہ جس کے تین طرف پانی ہو۔الجزیرۃ: شمال مغربی میسوپوٹامیا Mesopotamia۔الجزائر: الجیریا Algeria۔جزیرۃ العرب: ملک عرب، عرب جزیرہ نما۔الجزائر الخالدات: بحر محیط (اٹلانٹک) میں بجانب غرب چھ جزیرے۔کینری جزیرے (the canary Islands)۔الجزیرۃ الخضراء: سپین کی جنوب غربی بندرگاہ Algeciras۔جزری: ٹاپو کا، جزیرہ کا، جزیرے کے مانند پانی سے گھرا ہوا، جزیرہ والوں کا سا تنگ نظر، جمع جزریون: جزیرہ کا باشندہ۔جزیرہ کا رہنے والا۔جزائری جمع جزائریون: الجیری (صفت و اسم)، جزیرہ کا باشندہ۔مَجزَر جمع مَجازِر: مذبح، مسلخ، بوچڑ خانہ، کمیلا، خون خرابہ، قتل و غارت، قصائی پنا، خونریزی۔مَجزَرۃ جمع مَجازِر: خون خرابہ، قتل و غارت، قصائی پنا، خونریزی، قتل عام۔جَزَر (اسم جمع واحد: جَزَرۃ): گاجر۔

جزع: ا۔جَزَعَ ـجَزْعاً لہ من مالہ جَزْعۃً: کو اپنے مال سے ایک حصہ دینا۔أجزعَ منہ جزعۃً: کا کچھ حصہ باقی چھوڑ دینا۔انجزعَ و تجزّعَ: کٹ جانا، ٹوٹ جانا۔اجتزعَ ہ: کو کاٹنا، توڑنا۔الجِزْعۃ و الجُزْعۃ جمع جِزَع: تھوڑی چیز، بقیہ۔المُجزّع من الأحواض: حوض جس میں تھوڑا سا پانی بچا ہو۔الجَزیعۃ جمع جَزائع: بھیڑوں کے ریوڑ کا ایک حصہ۔

۲۔جَزِعَ ـجَزَعاً و جُزوعاً منہ: پر صبر نہ کر کے غم و تکدر کا اظہار کرنا۔۔ علیہ: پر شفقت و مہربانی کرنا۔

کے بارے میں پریشانی محسوس کرنا، کے بارے میں خائف ہونا۔ صفت جَزِع و جَازِع و جَزْع و جُزّاع و جَزُوع۔ جَزَّعَہ: کا خوف و ہراس دور کرنا۔ المِجزاع جمع مَجَازِیع بہت بے صبرا۔

۳۔ جَزَعَ ۔جَزْعًا الوادیَ: وادی کو عرض میں طے کرنا۔ الجِزْع جمع اَجزاع من الوادِی: وادی کی وہ جگہ جہاں سے اسے طے کیا جائے۔ محلّہ (جہاں لوگ رہتے ہوں)۔

۴۔ الجُزْع: رہٹ کا دھرا۔ الجَزْع رہٹ کا دھرا۔ (واحد جُزْعَة) سفید و سیاہ مہرہ۔ الجِزْع جمع أجزاع: شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔ الجَازِعَة دو چیزوں کے درمیان رکھا ہوا تختہ جس پر کوئی چیز رکھی جائے۔ الجُزْعَة: چھری کا دستہ۔ المُجَزَّع و المُجَزِّع سفید و سیاہ چیز۔ ۔من الرُّطَب نیم پختہ کھجور، آدھی پکی کھجور۔

○ جَزِعَ ۔جَزَعًا و جُزُوعًا: متفکر ہونا یا ہو جانا، پریشان ہونا۔ ــــ من: کے بارے میں غمگین ہونا، ناخوش ہونا۔ ــــ علی: کے لئے رنج محسوس کرنا، پر ترس کھانا، کے لئے نوحہ کرنا۔ تَجَزَّعَ ٹوٹ جانا، تڑاک سے ٹوٹ جانا۔ جَزْع سنگ سلیمانی، پتھر جس کی تہوں میں مختلف رنگ ہوں۔ جُزْع دھرا، ڈنڈا، چھڑ، بلی، تیر، مشین کا لمبا دُھرا۔ جَزَع پریشانی، بے چینی، اندیشہ، خوف، خدشہ، تشویش، فکر، روحانی اذیت، انتہائی جسمانی یا ذہنی تکلیف، خوف، ڈر، ہراس، بیم، یاس، اداس، آزردگی، غمگینی۔ جَزِع بے چین، بے صبر، پریشان، مضطرب، خائف، اندیشناک، بےکل، بے قرار۔ جَزُوع و جَازِع بے چین، بےکل، بے قرار، مضطرب، بے صبر، بے تاب، حد سے زیادہ خواہشمند، متفکر، خائف، اندیشناک۔ مُجَزَّع بلھریا، رنگ دار، بوقلموں مختلف رنگوں کے ٹکڑے لگا ہوا، رنگ برنگا۔

جزف:۱۔ جَزَفَ ۔جَزْفًا و اِجْتَزَفَ الشیءَ: کو بے تولے، بے ناپے انکل بیچنا یا خریدنا۔ جَازَفَ مُجَازَفَةً: کی انکل اور تخمینہ سے خرید و فروخت کرنا۔ اسی سے ہے: جَازَفَ فی کلامِہ بےتکی اور بے اصولی باتیں کرنا۔ الجِزاف (جیم کی تثلیث کے ساتھ) و الجَزِیف انکل اور تخمینہ کی بیع۔ کہا جاتا ہے: بیعٌ جَزِیف و بَیْعٌ جُزافٌ انکل اور تخمینہ کی بیع۔

۲۔ جَازَفَ بنفسہ اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا، جان پر کھیلنا۔

۳۔ الجَزُوف مِن الحَوَامِل: ولادت کی حد سے گزرنے والی حاملہ۔ الجَزَّاف شکاری، صیاد۔ المِجْزَفَة: مچھلی پکڑنے کا جال۔

○ جَازَفَ: بے سوچے سمجھے، انکل پچو سے عمل یا حرکت کرنا، بے شعوری سے کچھ کرنا، قسمت آزمائی کرنا، خطرہ لینا، نفع کی امید پر روپیہ لگانا، سٹہ کا کاروبار کرنا، مبہم بات کرنا، عام پیرائے میں بات کرنا۔ ــــ ب کو خطرہ میں ڈالنا، کا جوا کھیلنا۔ جَازَفَ بنفسہ: اپنی جان خطرہ میں ڈالنا۔ جَازَفَ بہ فی (کسی مہم وغیرہ) میں کود پڑنا۔ جُزَاف: کسی چیز کی کوئی مقدار کی خریداری۔ جُزَافًا بے سوچے سمجھے، انکل پچو سے، یونہی، اتفاق سے۔ مُجَازَفَة: احمقانہ بہادری، مہم، طالع آزمائی، جوکھوں کا کام، جوکھوں، خطرہ، بے وقوفی، بے احتیاطی، لاپرواہی، منچلا پن، جلد بازی، بے باکی، اجڈ پن۔ مُجَازِف جلد باز، غیر محتاط، عاقبت نااندیش، لاپرواہ، بے وقوف، جیالا، اجڈ جیالا، جانباز، من چلا، سورما، جری، اولوالعزم۔

جزل:۱۔ جَزُلَ ۔جَزَالَةً الشیءُ: موٹا ہونا، بڑا ہونا۔ اِسْتَجْزَلَ ہ: کو موٹا، بڑا یا کسی کلام کو فصیح پانا۔ الجَزْل (مص) موٹا، بڑا۔ الجَزَال و الجَزِیل بڑی اور بہت چیز۔

۲۔ جَزُلَ ۔جَزَالَةً الرجلُ: صائب الرائے ہونا۔ اِسْتَجْزَلَ رأیَہ: کی رائے کو بہت عمدہ پانا۔ الجَزْل بےخطا رائے والا، عمدہ رائے والا۔

۳۔ جَزُلَ ۔جَزَالَةً المنطقُ: منطق فصیح ہونا۔ صفت: جَزْل جمع جِزَال و جَزِیل جمع أجْزَال و جِزَال۔ الجَزْل عمدہ لفظ۔

۴۔ جَزَلَ ۔جَزْلًا الشیءَ: کے دو ٹکڑے کرنا۔ ۔ القَتَبُ غاربَ البعیرِ: کجاوے کا اونٹ کی پیٹھ اور گردن کو کاٹ دینا، زخمی کر دینا۔ الجَزَال و الجِزَال: کھجور کے پھل اتارنا۔ کہا جاتا ہے: ھذا زمنُ الجزال: یہ کھجور کے پھل اتارنے کا زمانہ ہے۔

۵۔ أجْزَلَ العطاءَ و فی العطاء و من العطاء لفلان و علیہ: کو بہت بخشش دینا۔ اِسْتَجْزَلَ ہ: کو بہت فیاض پانا۔ الجَزْل بہت فیاض، بہت۔ الجَزَّال و الجَزِیل بہت چیز۔

۶۔ الجَوْزَل جمع جَوَازِل کبوتر کا بچہ۔

○ جَزُلَ ۔جَزَالَةً بہت ہونا، بڑا ہونا، وافر ہونا، فراوان ہونا، کثیر ہونا، کافی ہونا۔ أجْزَلَ لہ العطاءَ کو فیاضی، فراخ دلی اور رواداری سے دینا۔ اِخْتَزَلَ مختصر نویسی کرنا۔ جَزْل و جَزِیل جمع جِزَال: وافر، فراوان، کثیر، بہت، وافر: خاص، واضح اور فصیح (اسلوب، طرز، انداز)۔ جَزْل الرأی صحیح اور بے غلط بصیرت والا۔ شکرا جزیلا: اس نے اس کا فراخدلانہ شکریہ ادا کیا۔ شکرا جزیلا: بہت بہت شکریہ۔ جِزْلَة: ٹکڑا۔ جَزَالَة: بہتات، افراط، کثرت، وفور، زیادتی، (اسلوب کی) پاکیزگی۔ مُخْتَزِل: مختصر نویس، شیٹوگرافر۔

○ جُزْلان: جزدان (دیکھو جزدان)۔

جزم:۱۔ جَزَمَ ۔جَزْمًا ہ: کو کاٹنا۔ ــــ الأمرَ: کسی امر کا قطعی فیصلہ کرنا۔ (آپ کہتے ہیں: امرتُہ امراً جَزْمًا: میں نے اس کو قطعی حکم دیا۔ ھذا حکمٌ جَزْمٌ: یہ لازمی اور قطعی حکم (فیصلہ، رائے) ہے۔) ــــ علی الأمر: کا پختہ ارادہ کر لینا۔ ــــ الیمینَ: قسم پوری کرنا۔ (آپ کہتے ہیں: حلف یمینًا جَزْمًا: اس نے ایسی قسم کا حلف اٹھایا جو پوری کی جانے والی تھی)۔ ــــ علیہ الشیءَ: کسی چیز کو کسی پر واجب ٹھہرانا۔ ۔ الحرفَ حرف کو ساکن کرنا، جزم دینا۔ ۔ الفعلَ: فعل کے آخری حرف کو اگر صحیح ہے ساکن کرنا، یا حرف علت یا تثنیہ و جمع سے نون ساقط کرنا۔ ــــ و جَزَّمَ علیہ: پر ساکت و خاموش ہونا۔ ۔ عنہ: کے بارے میں بزدل اور عاجز ہونا۔ تَجَزَّمَ العودُ لکڑی کا پھٹنا۔ اِنْجَزَمَ الحرفُ ساکن ہونا۔ ۔ العظمُ: ہڈی ٹوٹنا، ٹوٹ جانا۔ الجِزْمُ من الأقلام: برابر قط والا قلم۔ الجَازِم جمع جَوَازِم (فا): جزم دینے والا کلمہ۔ جیسے لَمْ وغیرہ۔ الجِزْمَة بھیڑوں کے ریوڑ کا حصہ۔

۲۔ جَزَمَ و اِجْتَزَمَ النخلةَ: کھجور کے درخت کے پھلوں کا اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا۔

۳۔ جَزَمَ ۔الرجلُ: دن رات میں ایک ہی مرتبہ کھانا کھانا۔ الجَزْمَة: دن میں ایک مرتبہ کا کھانا۔

۴۔ جَزَمَ و جَزَّمَ القربةَ: مشک کو بھرنا۔ الجَازِم جمع جَوَازِم: بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے: سقاءٌ جازمٌ: بھری ہوئی مشک۔ بعیرٌ جازمٌ: سیراب اونٹ۔ مِجْزَم: بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے: سقاءٌ او إناءٌ مِجزمٌ بھری ہوئی مشک، بھرا ہوا برتن۔

۵۔ الجِزْم: حصہ۔ ــــ من الأمور: قبل از وقت آ جانے والا معاملہ۔ الجَزْمَة جوتا جو ٹخنے تک ہو (ترکی لفظ)۔

○ جَزَمَ ۔جَزْمًا: فیصلہ کرنا، رائے قائم کرنا۔ ــــ ہ فعل مضارع کے آخری حرف کو جزم دینا، ساکن کرنا۔ ــــ ہ: کو کاٹ ڈالنا، کاٹ کر چھوٹا کرنا، کو قینچی سے کاٹنا،

تراشنا، کا فیصلہ کرنا، کو طے کرنا۔ ـــ ب: کے بارے میں پورا یقین ہونا، مطلقاً پُر یقین ہونا، کو مصدقہ طور پر کہنا۔ ـ علی: کا مصمم ارادہ کرنا، کو کرنے کا فیصلہ کرنا، کا پکا ارادہ کرنا۔ ـ ہ علی کو پر عائد کرنا، کو کے گلے منڈھنا، کو پر لازمی، لازم، واجب یا فرض کرنا۔ جَزْم: کاٹنا، تراشنا، فیصلہ، عزم، ارادہ، قصد۔ علامۃ الجزم، جزمۃ: جزم۔ جَزْمَۃ: جزم (ْ) عربی میں (ہ)۔ جازم: فیصلہ کن، قطعی، غیر مبہم، ناطق، آخری، ـ ب: کا پختہ قائل، پُر یقین۔ مَجْزُوم: کٹا ہوا، تراشا ہوا، قینچی سے کٹا ہوا، فیصلہ شدہ، طے شدہ، ساکن (حرف)۔ مُنْجزم: ساکن (حرف)۔ جَزْمَۃ جمع جَزْمات و جِزَم: جوتوں کا جوڑا، ٹخنہ تک جوتوں کا جوڑا، بوٹ، شوز۔ جزمۃ برباط: تسمے والے بوٹ۔ جَزْمَۃٌ لَمَّاعَۃٌ: چمکدار چمڑے کے جوتے۔ جَزامِجی و جزماتِی جمع جزماتیہ جوتے بنانے والا۔

جزی: ۱۔ جَزَی ـ جَزاءً الرجلَ بکذا و علی کذا: کو کا بدلہ دینا۔ جَازَی مُجَازَاۃً و جِزَاءً ہ: کو بدلہ دینا۔ اِجْتَزَاہ: سے بدلہ مانگنا۔ الجزاء و الجَزَاء و الجَازِیَۃ و المُجازاۃ: کسی چیز کا بدلہ۔ الجازیۃ کی جمع الجَوَازِی ہے۔ کہا جاتا ہے: جَزَتْکَ الجَوَازِی: تم نے اپنے کئے کا بدلہ پالیا۔

۲۔ جَزَی فلانًا حقَّہٗ: کا حق ادا کرنا۔ تَجَازَی تَجَازِیًا دینَہٗ و بِدَیْنِہ علی فلان: سے اپنا قرضہ طلب کرنا، قرض کا تقاضا کرنا۔

۳۔ جَزَی ـ الشیءُ ہ: کسی شے کا کسی کے لئے کافی ہونا۔ ـــ و أَجْزَی الامرُ منہ و عنہ کا قائم مقام ہونا، کے لئے کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے: یَجزی ہذا من او عن ذاک: یہ اس کے قائم مقام ہے۔ یہ اس کے لئے کافی ہے۔ الجزیۃ جمع جِزًی و جِزِیٌّ و جِزَاء: ذمی سے لیا جانے والا ٹیکس: مین کا خراج۔ الأَجْزَی: زیادہ کافی، آپ کہتے ہیں: اللحمُ السمینُ اجزی من المَہْزُول: موٹا تیار گوشت دبلے گوشت سے بہتر ہے۔

○ جَزَی ـ جَزَاءً ہ ب/علی: کو کا بدلہ دینا، کے نقصان کی تلافی کرنا، کو کا معاوضہ دینا، کو کا انعام دینا، کو کی سزا دینا۔ ـ ہ کو مطمئن کرنا۔ ـــ ہ ب کی سے تلافی کرنا۔ ـــ عن کی تلافی کرنا، کا رد عمل کرنا۔ جَزَاکَ اللّٰہُ خیرًا اس کے لئے اللہ تمہیں خوش رکھے۔ جَزَاہُ جزاءَ سِنِمّارَ: اس نے برائی کے بدلے اس سے نیکی کی۔ جازا ہ ب کا سے معاوضہ دینا، کا سے بدلہ دینا۔ ـــ ہ ب: کو کا معاوضہ دینا، کو کا بدلہ دینا۔ ـــ ہ ب/علی: کو کا انعام دینا، کو کی سزا دینا۔ جازاھم خیرًا: اس نے اللہ تعالیٰ سے ان پر انعام کی دعا کی۔ أَجْزَی ہ: کو کافی ہونا، کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنا۔ ـــ عن: کی جگہ لینا، کی جگہ کام کرنا۔ جَزَاء: بدلہ، معاوضہ، جزا، سزا، تلافی، حساب چکانا، جرمانہ، تاوان۔ جزاء نقدی: جرمانہ۔ جَزائِی: سزا کا، تعزیری۔ جِزْیَۃ جمع جِزًی و جِزَاء: ٹیکس، خراج، باج، اسلامی حکومت میں آزاد غیر مسلموں پر فی کس ٹیکس۔ تَجْزِیَۃ انعام۔ مُجازاۃ: سزا، بدلہ، معاوضہ۔

جس: ۱۔ جَسَّ ـ جَسًّا و اِجْتَسَّ الارضَ: زمین روندنا۔

۲۔ جَسَّ جَسًّا و اِجْتَسَّ ہ بعینہ: کو گھورنا، تیز نظر سے دیکھنا۔ ـ ہ کا پتہ لگانے کے لئے ہاتھ سے چھونا، ٹٹولنا۔ المَجَسّ چھونے کی جگہ، سینہ۔ (کہا جاتا ہے: فلانٌ ضیقُ المجسّ او المَجَسَّۃ: فلاں شخص تنگدل ہے، فلاں شخص کا سینہ تنگ ہے)۔ (ع ا) حشرات وغیرہ کی موچھیں، جو چھونے کی حس رکھتی ہیں۔ المَجَسَّۃ جمع مَجَاسّ: بمعنی المَجَسّ (طب): نبض۔ کہا جاتا ہے: مُجَسَّتُہ حارّۃ: اس کی نبض گرم ہے۔ المجسّۃ جمع مَجَاسّ و مِجَسَّات: چھونے کا آلہ۔ جَوَاسُّ الانسان: واحد جاسّۃ: ہاتھ، آنکھ، منہ، سونگھنے کی حس، سننے کی حس (انسان کے پانچ حواس)۔

۳۔ جَسَّ و تَجَسَّسَ و اِجْتَسَّ الاخبارَ و الامورَ: خبروں یا کاموں کی تفتیش کرنا، ان کی دریافت میں لگنا۔ الجَسِیس جمع أَجِسَّۃ و الجاسوس جمع جَوَاسِیس و الجَسَّاس: حالات دریافت کرنے والا، حالات کی تفتیش کرنے والا، جاسوس۔ الجَسَّاس جمع جَسَّاسات: برقی لہروں کو بھیجنے یا وصول کرنے کا آلہ۔ الجاسوسیۃ: جاسوسی، جاسوسی کا پیشہ، جاسوسی کا محکمہ۔ ضد الجاسوسیۃ: جوابی جاسوسی۔ (Counter- espionage - counter inteligence)۔

○ جَسَّ ـ جَسًّا و مَجَسَّۃً ہ: کو چھونا، محسوس کرنا، ہاتھ سے چھونا، کو چھو کر معلوم کرنا، کی چھو کر پڑتال کرنا، کو جانچنا، آزمانا، کا امتحان کرنا، کا کھوج لگانا، کی تفتیش کرنا، کی چھان بین کرنا، کی تہہ کو پہنچنا، کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کو دریافت کرنے کی کوشش کرنا، عمل سے قبل کے بارے میں صورت حال کا اندازہ کرنے کے بعد معلومات جمع کرنا۔ جَسَّ نبضہ کی نبض دیکھنا۔ (مجازًا) جَسَّ نبضَ الشیء: کی چھان بین کرنا، کی تہہ کو پہنچنا، کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ تَجَسَّسَ ہ: کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کو معلوم کرنے یا دریافت کرنے کی کوشش کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، کی مخبری کے لئے پھرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا۔ تَجَسَّسَ: جاسوس ہونا، جاسوسی میں حصہ لینا۔ ـ علی: پر خفیہ طور پر کڑی نظر رکھنا، کی مخبری کرنا، کی ٹوہ میں لگا رہنا، کے بارے میں خواہ مخواہ تجسس کرنا۔ تَجَسَّسَ لہ الاخبارَ: کے لئے معلومات جمع کرنا، کے لئے جاسوسی کرنا۔ اِجْتَسَّ ہ: کو چھونا، محسوس کرنا، عمل سے قبل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا تاکہ صورت حال کا اندازہ کیا جاسکے۔ طَرِیٌّ الجَسّ: چھونے میں نازک، نرم و ملائم سطح کا، تازہ۔ جاسُوس جمع جَوَاسِیس: جاسوس۔ جاسُوسۃ: جاسوس عورت۔ جاسُوسِی: جاسوسی کا۔ جاسُوسِیۃ: جاسوسی۔ مَجَسّ: چھونے اور محسوس کرنے کی جگہ، چھونے کی حس۔ خَشِنُ المُجَسّ: چھونے میں کھردرا، ناہموار سطح کا۔ مِجَسّ: زخم سلائی (probe)۔ تَجَسُّس: جاسوسی۔

جسا: جَسَأَ ـ جَسْأً و جُسُوءًا و جُسَاءَۃً ت الیدُ من العمل: کام سے ہاتھ کا سخت ہوجانا۔ صفت: جَاسِئَۃ و جَسْآء: الجَسِیّ: سخت کھال، جما ہوا پانی۔ الجاسِی من النبات و نحوہ خشک پودا وغیرہ۔

○ جاسِی: سخت، کھردرا، سخت ناہموار۔

جسد: ۱۔ جَسِدَ ـ جَسَدًا الدمُ بہ: سے خون کا چپکنا، چمٹنا۔ صفت: جَسِد و جاسِد۔ الجَسَد جمع اَجْسَاد خشک خون۔ الجَسِید خشک خون۔

۲۔ جَسَّدَہ کو زعفران سے رنگنا۔ الجَسَد جمع أَجْساد و الجساد (ن) زعفران۔

۳۔ تَجَسَّدَ جسم والا ہونا۔ حضرت مسیح کلمۃ اللہ کا حضرت مریم کے اندر بشری جسم اختیار کرنا، تجسیم یسوع مسیح۔ الجَسَد جمع أَجْساد: انسان کا جسم، نسبت کی صورت میں۔ جَسَدِیّ و جُسْدانِیّ۔ المِجْسَد: بدن سے متصل قمیص، بنیان۔ الجُسَاد پیٹ کا درد۔

○ جَسَّدَ ہ: کو مادی بنانا، حیوانی بنانا، کو جسم پہنانا، کو ٹھوس شکل دینا، کو میں شامل کرنا، پر مشتمل ہونا، کو جسم

عطا کرنا، کو مجسم کرنا، کو مادی شکل میں پیش کرنا۔ تَجَسَّدَ: مادی ہو جانا، حیوانی ہو جانا، ٹھوس شکل اختیار کرنا، عمل میں آنا، مادی صورت میں آنا، مجسم ہو جانا (مسیحت کا عقیدہ)، سہ بُعدی ہو جانا۔ (become three dimensional)۔ جَسَد جمع أَجْسَاد: جسم، عِيدُ الجَسَد و خمِيسُ الجَسَد: عیسائیوں کا تہوار در بارہ تجسم حضرت عیسیٰ۔ جَسَدِيّ: جسمانی، بدنی، جسمی، انسانی، بشری، حیوانی، مادی، فانی، دنیاوی، نفسانی، شہوانی۔ جُسْدانِي: جسمانی، بدنی، جسمی۔ تَجَسُّد: وقوع، ظہور، تجسم، انسانی شکل (مسیحی عقیدہ)۔ مُجَسَّد: مجسم، عملی شکل دیا ہوا، ظاہری شکل میں لایا ہوا، عملی شکل میں ظاہر کیا ہوا۔ مُتَجَسِّد: مادی، جسمانی، مجسم، متشکل بشکل انسانی۔

جسر ۱۔ جَسَرَ ـُ جَسَارَةً و جُسُورًا على الامر: کو کرنے کی جسارت کرنا۔ ـــ و تجاسَرَ: لمبا ہونا، جرأت کرنا۔ جَسَّرَهُ: کو شجاع بنانا، دلیر بنانا۔ الجَاسِر جمع جُسَّار و جَاسِرُون و الجَسُور جمع جُسُر و جُسْر مونث: جَاسِرة: شجاع، بہادر، آگے بڑھنے والا۔ الجَسَرَة: جسارت، جرأت، دلیری، بہادری۔ الجَسَّار: بہت منچلا، بہت دلیر و بہادر۔

۲۔ جَسَرَ ـُ جَسْرًا: پل بنانا۔ ـــ اِجْتَسَرَ المفازةَ: بیابان کو عبور کرنا، طے کرنا۔ الجَسْر و الجِسْر جمع جُسُور و أَجْسُر: پل۔

۳۔ الجَسْر مونث جَسْرَة من الرجال: بڑے ڈیل ڈول والا آدمی۔ ـ من الإبل: بڑا اونٹ۔

○ جَسَرَ ـُ جَسْرًا ہ: کو عبور کرنا، کا احاطہ کرنا، میں سے گزرنا، کے پار جانا، کو قطع کرنا، کے شرق سے مغرب تک سفر کرنا۔ ـــ جَسَارَةً و جُسُورًا على: کی جرأت کرنا، کو خطرے میں ڈالنا، کو کرنے کی ہمت کرنا۔ جَسَّر: بند یا پشتہ بنانا، کھائی یا خندق بنانا۔ ـ ہ على: کو کچھ کرنے کی جرأت دلانا کی ہمت بندھانا، کا جی بڑھانا۔ تَجَاسَرَ على: کی جسارت کرنا، جرأت کرنا (خطرہ) کا مقابلہ کرنا، (خطرناک کام کا) بیڑا اٹھانا، کو خطرہ میں ڈالنا، کے ساتھ گستاخی کرنا، ڈھیٹ بننا، منچلا ہونا، آگے کھیلنے والا ہونا۔ اِجْتَسَرَ ہ: کو عبور کرنا، کا احاطہ کرنا، میں سے گذرنا، کے پار جانا، کو قطع کرنا، کے مشرق سے مغرب تک سفر کرنا۔ جِسر جمع اَجْسُر و جُسُور: پل، پشتہ، کھائی، بند، خندق، سیلاب روک پشتہ۔ ـــ جمع جُسُورَة: شہتیر، دھرا، دھرے کا ڈنڈا، گول ڈنڈی۔ جِسْرٌ مُتَحَرِّكٌ: متحرک پل۔ جِسْرٌ مُعَلَّق: لٹکتا پل، معلق پل۔ جِسْرٌ عائِمٌ: کشتیوں کا پل، تیرنے والا پل۔ جَسُور: بہادر، نڈر، بے باک، گستاخ، ڈھیٹ، آگے کھیلنے والا۔ جَسَارَة: بہادری، دلیری، نچلا پن، بے احتیاطی، لاپرواہی، جواں مردی، بے باکی، شجاعت، چستی، چالاکی، آزاد خیالی، ترقی پسندی، گستاخی، بے ادبی، شوخی۔ تجاسُر: بہادری، منچلاپن، بے احتیاطی، لاپرواہی، جواں مردی، بے باکی، شجاعت، چستی چالاکی، آزاد خیالی، ترقی پسندی، گستاخی، بے ادبی، شوخی۔ مُتَجَاسِر: بہادر، نڈر، گستاخ، منچلا، ڈھیٹ، تیز، دلیر، سرگرم۔

جسع: جَسَعَ ـَ جُسُوعًا عن العطاء: عطا سے رکنا، باز رہنا۔ الجَاسِع من السفر: دور دراز کا سفر، لمبا سفر۔

جسم: ا۔ جَسُمَ ـُ جَسَامَةً: تناور، موٹا ہونا، مضبوط ہونا۔ صفت: جُسَام و جَسِيم جمع جِسَام مونث: جُسَامَة و جسِيمة۔ جَسَّمَ ہ: کو موٹا اور مضبوط کرنا۔ تَجَسَّمَ: تناور اور موٹا ہونا۔ ـــ الأَمرَ او الرملَ: کسی امر عظیم کی طرف اقدام کرنا یا ریگستان کے بیشتر حصہ کو طے کرنا۔ ـــ فلانٌ من الكَرَم: کرم و فیاضی کا پتلا ہونا۔ ـ فلانًا من بين القوم: کو قوم میں سے چن لینا۔ الجسم جمع أَجْسَام و أَجْسُم و جُسُوم: بدن، جسم، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی رکھنے والی چیز۔ نسبت کے لئے: جِسْمِي و جِسْمَانِي۔ الجُسُم: بڑے بڑے امور۔ الأَجْسَم: زیادہ تناور اور بڑا۔ المُجَسَّم: ہر وہ چیز جو طول و عرض و عمق رکھتی ہو، جسم کے طول کو اس کے عرض اور عمق سے ضرب دینے سے حاصل ہونے والا عدد۔ الجُسْمان: جسم۔

۲۔ تَجَسَّمَ في عيني كذا: کے خیال و تصور میں آنا۔ ـ الارضَ: کسی زمین کا ارادہ کرنا۔

○ جَسُمَ ـُ جَسَامَةً: بڑا ہونا، قد آور ہونا، جسیم ہونا، بھاری ہونا، پہاڑ کا پہاڑ ہونا، فراخ ہونا، کشادہ ہونا، لا انتہا ہونا، بہت ہونا، بہت بڑا ہونا، بے حد ہونا، عظیم ہونا۔ جَسَّمَ ہ: کو مادی بنانا، جسمانی بنانا، کو جسم پہنانا، کو شکل یا صورت دینا، کو جسمانی بنانا، کی تشکیل کرنا، کو ظہور میں لانا، کو حقیقت کا جامہ پہنانا، مادیت کے رنگ میں رنگنا؛ کو نمایاں کرنا، واضح کرنا، کو بڑا کرنا، بڑھانا، (خوردبین کا)، کو بڑا بنانا، ضخیم بنانا، بہت بڑا بہت وسیع اور بہت ضخیم بنانا، کو زیادہ اہم ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ تَجَسَّمَ: مادی یا حیوانی ہو جانا، مجسم ہو جانا، عمل میں آنا، مادی صورت میں آنا، صورت اختیار کرنا، ٹھوس یا محسوس ہو جانا، جامہ عمل پہننا، مادی صورت میں آنا، بڑا ہو جانا، بہت بڑا ہو جانا، حجم میں بڑھ جانا، جسامت اور قد و قامت میں بڑھ جانا۔ جِسْم جمع أَجْسَام و جُسُوم: جسم، گاڑی وغیرہ کی باڈی، صورت، شکل، مادہ، اصلی جزو۔ جِسْمِي: جسمانی، بدنی، مادی، ٹھوس، مضبوط، اصلی، حقیقی۔ جَسِيم جمع جِسَام: بڑا، طول طویل، ضخیم، بہت بڑا، بہت وسیع، بہت ضخیم، وسیع، خاصا موٹا، لحیم و شحیم، موٹا، فربہ، بوجھل، بہت بھاری، انتہائی اہم۔ جُسَيْم جمع جُسَيْمات: ذرہ، خون میں زندہ مادہ کی بہت چھوٹی اکائی سرخ یا سفید رنگ کی۔ أَجْسَم: زیادہ طول طویل، زیادہ ضخیم، زیادہ بڑا، زیادہ لحیم و شحیم، زیادہ فربہ۔ جَسَامة: قد، قامت، جسامت، حجم، موٹاپا فربہی، تنومندی، طاقت وری۔ جُسْمان: جسم، تودہ۔ جُسْمانی: جسمانی، مادی، بدنی۔ التأديب الجُسْمانی: جسمانی سزا۔ تجسیم: یکجائی، عملی اظہار، جو کسی چیز کو ٹھوس صورت دے، نمایاں خدوخال، واضح خاکہ، طول کلامی، کشادگی، توسیع، مبالغہ، بڑھا چڑھا کر دکھانا، بڑھا چڑھا کر دکھانے کی قوت۔ مُجَسَّم: جسمانی، بڑا کر کے دکھایا ہوا، مادی، سہ بُعدی، محسوس، ٹھوس، ہیولائی، ابھارا ہوا۔ خَرِيطةٌ مُجَسَّمة: طبعی نقشہ جس میں قدرتی چیزیں ابھار کر یا رنگ بھر کر دکھائی جاتی ہیں۔ فِلم مُجَسَّم: سہ بعدی فلم۔

جسا: جَسَا ـُ جُسُوًّا و جُسُوًّا: بمعنی جَسَأَ۔ جَاسَى مُجَاسَاةً ہ: سے دشمنی کرنا۔

○ جسا ـُ جُسُوًّا: سخت ہو جانا، ٹھوس ہو جانا۔

جش: ا۔ جَشَّ ـُ جَشًّا ہ: کو کوٹنا، توڑنا۔ اجَشَّ الشيءَ: کو کوٹنا، توڑنا۔ ـ البُرَّ: گیہوں کو موٹا پیسنا، کا دلیا نکالنا۔ صفت مفعولی: جَشِيش و مَجْشُوش۔ المِجَشّ و المِجَشَّة: دلیا دلنے کی چکی۔

۲۔ جَشَّ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا، کوچ کرنا (ضد)۔ الجَشَّة و الجُشَّة: ایک ساتھ آنے والا لوگوں کا گروہ۔

۳۔ جَشَّ المكانَ: کسی جگہ جھاڑ دینا، اس کو صاف کرنا۔ ـ دَمْعَهُ: آنسو نکالنا، بہانا۔

۴۔ جَشَّ ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔

۵۔ أَجَشَّ و اِجْتَشَّ المكانُ: جگہ کا گنجان و گھنی گھاس اور نباتات والی ہونا۔

۶۔ الجَشّ من المواضع: پتھریلی جگہ۔ الجَشَّة و الجُشَّة: بیٹھی، بھرائی ہوئی یا روکھی آواز۔ الأَجَشّ مونث جَشَّاء: بھونڈی آواز والا آدمی۔

○ جَشّ جَشًّا ہ: کو پیسنا، کچلنا، رگڑنا، کدوکش پر پھیلنا۔ جَشَّة: آواز کا بیٹھا ہوا یا بھرائی ہوئی ہونا، آواز کا روکھا پن، آواز کا بھاری پن۔ جشیش: پسا ہوا، کچلا ہوا، رگڑا ہوا، کدوکش کیا ہوا۔ أَجَشّ مونث جَشّاء: بیٹھی، بھرائی ہوئی یا بھاری (آواز)۔

جشأ: ا۔ جَشَأَ جُشُوءًا و جُشَأً و جَشَأَتْ نفسُهُ: کا خوف یا غم کے باعث جی متلانا۔ —— البحرُ: سمندر کا ہیجان میں آنا۔ جَشَّأَ تجشئةً و تَجَشَّأَ تَجَشُّؤًا: ڈکار لینا۔ اِجْتَشَأَ البلادَ و احتشأَتْهُ البلادُ: ملک کو ناموافق پانا یا ملک کا ناموافق ہونا۔ الجُشاء، واحد جُشَأَة و جُشَاءَة: ڈکار۔

۲۔ جَشَأَ جُشُوءًا و جُشأً و جَشَأَ المکانُ: جگہ کا خوب پودے اگانا۔ مِنَ المکان جگہ سے نکلنا۔

○ جَشَأَ و تَجَشَّأَ: ڈکار لینا۔ جُشَاء و جُشَأَة ڈکار، ڈکار لینا۔

جشب: جَشُبَ ـُ و جَشِبَ ـَ جَشَبًا و جَشُبَ ـُ جَشَابَةً الطعامُ: کھانے کا موٹا اور بدذائقہ ہونا صفت: جَشْب و جَشِب و جَشِیب و مِجْشَاب و مَجْشُوب۔ جَشُبَ الرجلُ: کا بدغذا ہونا، بری خوراک پر گذارہ کرنا۔ المِجْشَب موٹے جسم والا، بہادر۔

جشر: ا۔ جَشَرَ ـُ جَشْرًا المواشی: مویشیوں کو چرنے کے لئے نکالنا، لے جانا۔ ـ جُشُورًا الرجلُ: سفر کرنا۔ جَشَّرَ المواشیَ: مویشیوں کو چرانے کے لئے نکالنا، لیجانا۔ الجَشَر و الجُشَّار: چراگاہ میں چرنے کے بعد شام کو اپنے مالکوں کے پاس لوٹ کر نہ آنے والے مویشی، چراگاہ میں اپنے اونٹوں کے ساتھ رات گزارنے اور گھر نہ لوٹنے والے لوگ۔ الجُشاریّ: چرواہا۔

۲۔ جَشَرَ ـُ جُشُورًا الصبحُ: پو پھٹنا۔

۳۔ جَشِرَ ـَ جَشَرًا و جُشِرَ: کی آواز کا بیٹھنا، کا کھانسنا۔ صفت: أَجْشَر مونث جَشْراء جمع جُشْر۔ الجُشْرَة: آواز کا بیٹھا ہوا ہونا، کھانسی۔

۴۔ جَشَرَ الاناءَ: برتن کو خالی کرنا۔ المِجْشَر جمع مَجَاشِر: حوض۔

○ جُشَر: ڈھور ڈنگر، مال مویشی۔

جشع: جَشِعَ ـَ جَشَعًا و تَجَشَّعَ: بدحرص اور لالچی ہونا صفت: جَشِع جمع جَشِعُون و جَشَاعَی و جُشَعَاء و جِشَاع۔ تجاشعَا الماءَ: پانی پر باہم برافروختہ ہونا۔

○ جَشِعَ جَشَعًا و تَجَشَّعَ: لالچی ہونا، حریص ہونا۔ جَشَع: حرص، لالچ، طمع، حد سے زیادہ خواہش، حسرت یا تمنا۔ جَشِع: حریص، لالچی۔

جشم: ا۔ جَشِمَ ـَ جَشْمًا و جَشَامَةً الامرَ: تکلیف اور مشقت سے کام کرنا۔ کہا جاتا ہے: جَشِمْتُ الیک عَرَقَ القِربة: میں نے تمہاری وجہ سے بڑی مشقت جھیلی۔ جَشَّمَ و أَجْشَمَ ہ الامرَ: کو کام کرنے کی تکلیف دینا۔ کہا جاتا ہے: مہما تُجَشِّمُنی فانی جاشِم: جتنی بھی تم مجھے تکلیف دو گے میں جھیلوں گا۔ تَجَشَّمَ الرملَ: ریگستان کے بیشتر حصہ کو عبور کرنا۔ —— الأمرَ: تکلیف اور مشقت سے کام کرنا۔ الجَشَم و الجُشَم بوجھ، بھاری کام (کہا جاتا ہے: القی علیَّ جُشَمَهُ: اس نے اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دیا)۔ —— من البعیر اونٹ کا سینہ۔ الجَشِم و الجَشِیم موٹا ہونا، بھاری۔

۲۔ تَجَشَّمَ فلانًا مِن بین القوم قوم میں سے فلاں کو چن لینا اور اس کی روش اور طریقے پر چلنا۔

○ جَشِمَ جَشْمًا و جَشَامَةً ہ: کوئی مشکل اٹھانا، کو کرنے کی جسارت کرنا۔ جَشَّمَ ہ ہ کو کچھ برداشت کرنے کا باعث ہونا، کوئی تکلیف دینا، کے گلے کوئی مشکل کام منڈھنا، پر کوئی بوجھ لادنا۔ تَجَشَّمَ ہ: کوئی مشکل اٹھانا، جھیلنا (مشکلات میں سے) گذرنا، (تکلیفیں) برداشت کرنا، (کڑیاں) جھیلنا۔

جشن: الجَوْشَن: سینہ، زرہ۔ —— من اللیل: وسط شب۔

○ جشنی (شِشْنِی) نمونہ، مثال، جانچنا (نمونہ لے کر یا تجربہ کرکے)۔

جصّ: ا۔ جَصَّ ـِ جَصًّا و جَصِیصًا: سخت بندھ جانے کی وجہ سے کراہنا۔

۲۔ جَصَّصَ الجروُ: پلے کا آنکھیں کھولنا۔ —— العنقودُ: خوشہ کا پھوٹنے کے قریب ہونا۔

۳۔ جَصَّصَ علی العدو: دشمن پر حملہ کرنا۔

۴۔ جَصَّصَ البناءَ: عمارت پر سفیدی کرنا، گچ کرنا۔ الجَصّ و الجِصّ (ب): گچ، چونہ۔ الجصّاص گچ والا، گچ بیچنے والا۔ الجَصَّاصَة: چونے کا کارخانہ، چونے کی بھٹی۔

۵۔ اِجْتَصَّ و تَجَاصَّ القومُ: قریب ہونا، اکٹھا ہونا۔ الجَصِیصَة پاس پاس رہنے والے لوگوں کا گروہ۔

○ جَصَّصَ ہ: پر پلستر کرنا، کہگل کرنا، سفیدی کرنا۔ جِصّ: جپسم، کھریا مٹی، پلاسٹر آف پیرس۔

○ جَضْطَنَ: آرام سے ٹیک لگا کر کھڑا ہونا یا بیٹھنا، سستی سے دراز ہونا، اینڈنا، سستی سے پڑے رہنا، پاؤں پسار کر لیٹنا یا بیٹھنا۔

جضّ: جَضَّ ـِ جَضًّا علیه بالسیف: پر تلوار سے حملہ کرنا۔

جعّ: ا۔ جَعْجَعَ البعیرَ: اونٹ کو بٹھانے یا اٹھانے کے لئے حرکت دینا۔ —— البعیرُ: اونٹ کا بیٹھنا۔ تَجَعْجَعَ البعیرُ ونحوہ: درد کے سبب زمین پر گر پڑنا (اونٹ وغیرہ کا)۔ الجَعْجَعَة (مص): اکٹھے ہونے والے اونٹوں کی آواز، چکی چلنے کی آواز، اسی سے ضرب المثل ہے: اسمع جَعْجَعَةً و لا أری طِحنًا: میں چکی چلنے کی آواز تو سنتا ہوں مگر آٹا مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ ضرب المثل اس بزدل کے لئے ہے جو بھبکیں تو بہت مارتا ہے مگر کچھ کرکے نہیں دکھاتا یا اس کنجوس کے لئے ہے جو وعدے تو بہت کرے مگر ایک وعدہ بھی پورا کرکے نہ دکھائے۔

۲۔ جَعْجَعَ بالغریم: مقروض سے سختی سے مطالبہ کرنا۔

۳۔ جعجع فی المکان: کسی جگہ میں غیر مطمئن حالت میں بیٹھنا۔ —— بالقوم: لوگوں کو تنگ اور سخت جگہ میں ٹھہرنے پر مجبور کرنا۔ الجَعْجَاع: تنگ اور سخت جگہ، میدان کارزار، قحط زدہ زمین۔

○ جَعْجَعَ جَعْجَعَةً: غوغا کرنا، شور مچانا، ہنگامہ برپا کرنا، دھاڑنا، ڈکرانا، چنگھاڑنا، گرجنا، چیخنا، چیخ کر پکارنا، چخ چخ کرنا، بک بک کرنا، کھٹا کھٹ کرنا، تالی بجانا، بڑبڑانا، دھمکانا، بھوں بھوں کرنا، غصہ سے پھٹنا۔ جَعْجَعَة ہلچل، افراتفری، شوروغل، غل غپاڑہ، لڑائی بھڑائی کا شور، شور، ہنگامہ، جھگڑا، دھاڑ، گرج، چیخ، بلند آواز، زور کی پکار، کھڑکھڑاہٹ، کھڑکھڑ، پٹ پٹ، کڑک، بھڑاکا، دھنگ، تالی، چرچر، چرچراہٹ، (چکی یا پہیے کی) بھڑبھڑائی آواز، دھمکی، بڑ۔ جَعْجَاع غوغائی، شور کرنے والا، اودھم مچانے والا، کلہ دراز، بھڑک دار، دنگا کرنے والا، فسادی، آواز لگانے والا۔

جعب: ا۔ جَعَبَ جَعْبًا الجَعْبَة: ترکش بنانا۔ الجَعْبَة جمع جِعَاب ترکش۔ الجَعَّاب: ترکش بنانے والا۔ الجِعَابَة ترکش بنانے کی صنعت۔

۲۔ جَعَبَ ـَ جَعْبًا و جَعَّبَ تجعیبًا و جَعْبَأَ جَعْبَأَةً و جَعْبَاءَةً ہ: کو الٹ دینا، پچھاڑ دینا۔ تَجَعَّبَ و اِنْجَعَبَ: بچھڑ جانا۔ تَجَعْبَی بچھڑ

جانا۔ الجَحْشُ: فوج کا بھیڑ کر کے ایک دوسرے پر چڑھنا۔ الجَعْباء: سرین۔

۳۔ الأَجْعَب مونث جَعْبَاء جمع جُعْب: بڑے پیٹ والا، کام میں سُست۔ الجُعْبُوب جمع جَعَابِيب: پستہ قد، بدشکل۔

○ جِعَّة: ہلکی شراب، جو کی شراب۔

○ جَعَّبَ ہ: میں نالیاں بنانا، لہر ڈالنا، شکن ڈالنا۔ جَعْبَة جمع جِعاب: ترکش، تیر رکھنے کا تھیلا، ٹیوب، پائپ، بندوق کی نالی، کارتوسوں کی تھیلی۔ جعبةُ اخبار: شہر کا مُکھی، یاوہ گو۔

جعد: ۱۔ جَعُدَ ـَ جَعَادَةً و جُعُودَةً الشعرُ: بالوں کا گھونگریالے ہونا۔ جَعَّدَ الشعرَ: بالوں کو گھونگریالے بنانا۔ تَجَعَّدَ الشیءُ: سکڑنا۔ — الشعرُ: بالوں کا گھونگریالے ہونا۔ الجَعْد جمع جِعَاد من الشعر: گھونگریالے بال۔

۲۔ الجَعْد جمع جِعَاد: کنجوس، کمینہ، بخیل۔ رجلٌ جَعْدٌ: کمینہ، بخیل آدمی۔ جعد الید: بخیل۔ رجلٌ جَعْدُ القفا: کمینہ حسب ونسب والا آدمی۔ ترابٌ جَعْدٌ: نمناک مٹی۔ وجہٌ جَعْدٌ: گول کم ملاحت والا چہرہ۔ زبدٌ جَعْدٌ: تہ بتہ مکھن۔ الجَعْدَہ (ن): ایک قسم کا خوشبودار پودا، موسم بہار میں اگتا ہے اور جلد خشک ہو جاتا ہے۔ ابو جَعْدَة و ابو جَعَادَة از جُعَادَة: بھیڑیے کی کنیت۔

○ جَعَدَ ـُ جُعُودَةً و جَعَادَة و تَجَعَّد: بالوں کا گھونگر والے ہونا، گتھی یا بل دار ہونا، لہر دار ہونا، شکن یا سلوٹ دار ہونا، جھریاں پڑنا، شکن پڑنا۔ جَعَّد ہ: کو گھونگریاں بنانا، مروڑنا، بل دینا، (بالوں) کو لہریا بنانا، گھونگریالے بنانا، کسی چیز کو لہریا بنانا، (کپڑے) میں سلوٹ یا شکن ڈالنا، پلیٹ ڈالنا۔ — ہ: کھال پر جھریاں ڈالنا، شکن ڈالنا۔ جَعْد یا جَعْدُ الید، جعد الکف: کنجوس، بخیل، کمینہ۔ جَعْدَة: گھونگریالے بال، گیسوئے تابدار، زلف پرشکن، بالوں کی لٹ، زلف، گیسو۔ جَعْدی و أَجْعَد: گھنگریالا۔ جَعِیدِیّ: گھٹیا، آوارہ گرد، ناکارہ شخص۔ تجاعید: جھریاں، شکنیں، چہرے کی لکیریں۔ تَجَعُّدات: جھریاں، شکنیں، چہرے کی لکیریں۔ مُجَعَّد: گھنگریاں، لہریا، لیک دار، شکن دار، جھری دار۔ مُتَجَعِّد: بمعنی: مُجَعَّد۔

○ جَعْدَنَة: گپ شپ، دوستوں کے متعلق افواہیں۔

جعر: ۱۔ جَعَرَ ـَ جَعْراً و اِنْجَعَرَ السبعُ: درندے کا پاخانہ کرنا۔ الجَعْر (مص) جمع جُعُور: درندہ کا پاخانہ۔ جِعَارِ و ابو جَعَارِ و اُمّ جَعَارِ: بجو۔ الجَعْرَاء و المَجْعَر: دبر۔ ابو جِعْران: گبریلا۔ اُمّ جِعْران: بڑا گدھ۔

۲۔ تَجَعَّرَ: کنویں میں گرنے کے ڈر سے کنویں میں اترتے وقت کمر سے رسی باندھنا۔ الجِعَار: وہ رسی جو کنویں میں اترنے والا اپنی کمر سے باندھ لیتا ہے اور اس کا دوسرا سرا کسی کھونٹے سے تاکہ کنویں میں نہ گر جائے۔ جانور کے سرین کے ان حصوں پر نشان جن پر دم ہلاتے وقت لگتی ہے۔ الجَاعِرتان: جانور کے سرین کے وہ حصے جن پر دم ہلاتے وقت لگتی ہے۔ کہا جاتا ہے: کوی دابته علی جاعرتیها: اس نے اپنے جانور کے رانوں کو لوہے سے داغدار کر دیا۔

○ جَعَرَ ـَ جَعْرًا: جانور کا گوبر کرنا، لید کرنا۔ ابو جِعْران: بھونرا۔

جعس: جَعَسَ ـَ جَعْسًا الرجلُ: آدمی کا پاخانہ کرنا۔ تَجَعَّسَ: گھن کھانا، فحش بکنا۔

جعظ: جَعَظَ ـَ جَعْظاً و أَجْعَظَ ہ: کو ہٹانا، دفع کرنا۔ جَعِظَ ـَ جَعَظًا: بدخلق وتندمزاج ہونا۔ صفت: جَعْظ و جَعِظ۔

جعف: ۱۔ جَعَفَ ـَ جَعْفًا ہ: کو پچھاڑنا۔ — الشجرةَ: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔ اجْعَفَ ہ: کو پچھاڑنا۔ اِجْتَعَفَ الشجرةَ: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔ اِنْجَعَفَتِ الشجرة: درخت کا جڑ سے اکھڑ جانا۔ الجَاعِف و الجُعَاف من السیول: بیخ کن اور ہر چیز بہا لے جانے والا سیلاب۔ الجَعْف (مص): وہ تھوڑی روزی جس میں سے کچھ نہ بچے۔

۲۔ الجَعْفَر: دریا، ندی، بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔

۳۔ الجعفیل (ن): ایک طفیلی پودا جس کے تنوں پر مختلف رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ دنیا کے متعدد علاقوں میں پایا جاتا ہے، اس کے زمین کے حصے کئی پودوں کی جڑوں سے چمٹ جاتے ہیں اور ان کا رس چوس لیتے ہیں۔

جعل: ۱۔ جَعَلَ ـَ جَعْلاً ہ: کو بنانا، پیدا کرنا، کی تخلیق کرنا (جیسے جعل اللّٰہُ الظلمات: اللہ تعالیٰ نے تاریکیاں پیدا کیں)، کو رکھنا، مقرر کرنا جیسے جَعَلَهُ حاکما: کو حاکم مقرر کیا، تبدیل کرنا، جیسے: جَعَلَ الحسن قَبِیحًا: حسن کو تبدیل کر کے بدصورت کر دیا۔ تَجَاعَلُوا الشیءَ: کو ل کر بنانا۔ اِجْتَعَلَ ہ: کو گھڑنا۔ — الشیءَ: کو بنانا۔

۲۔ جَعَلَ ـَ جَعْلاً ہ: کو گمان کرنا، خیال کرنا جیسے: جَعَلَ الحق باطلاً: اس نے سچ کو باطل خیال کیا۔

۳۔ جَعَلَ ـَ جَعْلاً: کرنے لگنا، شروع کرنا۔ جیسے: جَعَلَ یکتبُ: وہ لکھنے لگا، اس نے لکھنا شروع کیا۔

۴۔ جَعَلَ ـَ جَعْلاً: دینا، جیسے: اِجْعَلْ لی لسانَ صدقٍ: مجھ کو سچی زبان عطا فرما۔ — له کذا علی کذا: سے شرط باندھنا۔ جَاعَلَ مُجَاعلةً و جِعَالاً ہ: کو رشوت دینا۔ أَجْعَلَ له: کی کسی کام پر مزدوری مقرر کرنا۔ — ہ جُعْلاً: کو مزدوری دینا۔ اِجْتَعَلَ الشیءَ: کو لینا، آپ کہتے ہیں: جعله الشیءَ فاجتعله: اس نے اس کو کوئی چیز دی اور اس نے لے لی۔ الجِعَال جمع جُعُل و الجِعَالَة (تثلیث الجیم سے) والجُعْل جمع اَجْعَال و الجَعِیلَة جمع جَعَائِل: مزدوری، اجرت، فوجی سپاہی کا وظیفہ یا اس کی تنخواہ۔ الجَعَالة: رشوت۔

۵۔ جَعِلَ ـَ جَعَلاً الغلامُ: لڑکے کا موٹاپے کے ساتھ پست قد ہونا۔

۶۔ جَعِلَ ـَ جَعَلاً الرجلُ: آدمی کا جھگڑالو ہونا۔ صفت: جُعَل۔

۷۔ جَعِلَ ـَ جَعَلاً الماءُ: پانی میں سیاہ کیڑوں کا بکثرت پیدا ہو جانا۔ أَجْعَلَ الماءُ: پانی میں سیاہ کیڑوں کا بکثرت پیدا ہو جانا۔ ماءٌ جَعْلٌ و جَعِلٌ: بکثرت سیاہ کیڑوں والا پانی۔ جُعَل جمع جِعْلان (ح): سیاہ بھونرا، سیاہ اور بدشکل آدمی۔

۸۔ الجُعْل: رقیب۔ الجِعَال: چولہے سے دیگچی اتارنے کے لئے استعمال کی جانے والی صافی۔

○ جَعَلَ ـَ جَعَلا ہ ہ: کو قاعدہ یا اصول وغیرہ بنانا۔ — ہ ہ: کو رہنما، بادشاہ وغیرہ بنانا، کو کسی منصب یا عہدے وغیرہ پر فائز کرنا۔ — ہ ہ: کی کوئی قیمت مقرر کرنا۔ — ہ ب یا ہ ہ: کو کوئی (شخص) خیال کرنا، یقین کرنا، سمجھنا۔ — ہ ہ: کو کوئی چیز وغیرہ خیال کرنا، یقین کرنا، سمجھنا۔ — ہ ب یا ہ ہ: کو غلطی سے کوئی شخص سمجھنا، فرض کرنا، خیال کرنا۔ — ہ ہ: کو غلطی سے کوئی چیز سمجھنا، فرض کرنا، خیال کرنا۔ — ہ فی صورة: کی بطور یا کی صورت میں نمائندگی کرنا۔ — ہ ل: کو کے لئے یا کے حق میں طے کرنا، کی چیز کو کسی کو دینا، عطا کرنا۔ — ل ہ: کو کے راستہ میں رکھنا، کی طرف کوئی بات وغیرہ منسوب کرنا۔ — ہ ل: وثوق سے کہنا کہ کوئی چیز فلاں شخص کی ہے، کوئی چیز کسی کے سپرد کرنا۔ — ہ/ہ: کو مخصوص حالت میں رکھنا۔ — (مضارع کے ساتھ) کو کرنے لگنا۔ جَعَلَه یفعل: کو کرنے پر اکسانا، سے کچھ کرانا۔ جَعَله بمنزلةٍ: کو کے درجہ پر رکھنا۔ جعله فی متناولِ یده: کو کسی کی دسترس، رسائی میں رکھنا، کی تک رسائی کرانا۔ جَاعَلَ ہ ب: کو

کی رشوت دینے کی کوشش کرنا، کو سے ہمنوا بنانے کی کوشش کرنا۔ جُعْل جمع اَجْعَال: تنخواہ، مزدوری، انعام۔ جُعْلی: اتفاق۔ اتفاقٌ جُعْلِیٌّ: ٹھیکے کا کام۔ جُعَل جمع جعلان: بھونرا۔ جِعَالَہ و جَعَالَۃ و جُعَالَۃ جمع جعائِل: تنخواہ، مزدوری، الاؤنس، انعام، رشوت۔

جعم ۱- جَعَمَ ۔جَعْمًا ہ: کے منہ میں کوئی ایسی چیز رکھنا کہ وہ کاٹ یا کھانہ سکے۔ ــ و جَعِمَ ۔جَعَمًا: کھانے کی خواہش نہ ہونا، خواہش ہونا (ضد)۔ کہا جاتا ہے: جَعِمَ الی اللحم: اسے گوشت کی سخت خواہش ہوئی، اسے کھانے کی رغبت نہ ہوئی۔ جَعِمَ و تَجَعَّمَ فی الشیءِ: کی طمع کرنا صفت: جَعِمٌ و جَعِمٌ۔ الجَعَم: بھوک۔ الجَيْعَم: ایسا بھوکا جو ہر شے دیکھ کر کھانے کی خواہش کرے۔

۲- أَجْعَمَ الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا، کی بیخ کنی کرنا۔ ــ الشجرُ: درخت کے پتے جڑ تک چر جانا۔

۳- المُجْعَم: پناہ لینے کی جگہ۔

جعا: جَعَا ۔جَعْوًا البعرَ ونحوہ: مینگنیاں جمع کر کے ڈھیر لگانا۔ الجَعْو (مص): ہاتھوں سے لگایا ہوا ڈھیر، سرین، کیچڑ۔ الجِعَة: جو کی شراب، بیرہ (beer)۔

جغر: الجِغْرَافِيَّة و الجغرافيا: علم جغرافیہ۔ الجغرافية الاقتصادية: پیداوار اور مصنوعات کا علم۔ الجغرافية الطبيعية: طبعی جغرافیہ۔ الجغرافية الرياضية: اجرام سماویہ (جیسے ستارے و سیارے) کے مابین زمین کے جائے وقوع کا علم۔ الجغرافية التاريخية: اجناس، لغات اور ممالک کی حدود اور اداروں کا علم۔ الجغرافية البشرية: باشندوں کا علم۔ الجُغْرافِيّ: جغرافیہ داں۔

جغرافی: جغرافیائی، جغرافیہ داں۔

جفّ: جَفَّ ۔جَفَافًا و جُفُوفًا: خشک ہونا، سوکھنا۔ صفت: جافّ و جَفِيف۔ مجازاً کہا جاتا ہے: جَفَّ لِبْدُہُ: اس نے سفر وکوچ کو چھوڑ کر اقامت اختیار کر لی۔ جَفَّفَ تَجْفِيفًا و تَجْفَافًا ہ: کو خشک کرنا، سکھانا۔ تَجَفَّفَ: خشک ہو جانا سوکھ جانا۔ اِجْتَفَّ ما فی الاناء: برتن کا سب کچھ چٹ کر جانا۔ الجُفّ: بہت بوڑھا۔ المَجَفَّف: خشک و سخت زمین۔ الجَفِيف: خشک گھاس۔ الجُفَاف: سوکھی ہوئی چیز۔

۲- جَفَّ ۔جَفًّا المالَ: مال جمع کر کے چپت ہو جانا۔ الجَفّ و الجَفَّة و الجُفّ و الجُفَّة: لوگوں کی جماعت، بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے: جاءَ القومُ جُفَّةً: ساری قوم آئی۔

۳- جَفَّفَ الفرسَ: گھوڑے کو پاکر پہنانا۔ التِجْفاف و التَجْفاف جمع تَجَافِيف: لڑائی میں بچنے کے لئے زرہ کی مانند ایک آلہ، جو گھوڑے اور انسان کے لئے ہوتا ہے۔ الجُفَيْف جمع جُفَيْفَات (ا ع): چھوٹی نلکی جو کارتوس کو لپیٹے ہوتی ہے۔

۴- الجُفّ: مصلح (کہا جاتا ہے: هو جُفُّ مالٍ: وہ مال کی اصلاح کرنے والا ہے)، ہر کھوکھلی چیز (بانس یا سرکل کی نلکی کی طرح کی)۔

۵- جَفْجَفَ الإبلَ: اونٹوں کو اتنی تیزی سے ہانکنا کہ وہ ایک دوسرے پر چڑھنے لگیں۔ ــ الثوبُ: گیلے کپڑے کا سوکھ کر کچھ نمدار رہ جانا۔ تَجَفْجَفَ الطائرُ: پرندے کا انڈے سینا۔ الجَفْجَف: بلند زمین، پست زمین (ضد)۔ الجَفْجَفَة: نئے کپڑے کی کھڑ کھڑاہٹ۔ جَفْجَفَةُ الموكب: جلوس کے چلنے سے پیدا ہونے والی آواز۔ الجَفَاجِف: ہیئت و لباس۔

○ جَفّ ۔جَفَافًا و جُفُوفًا: خشک ہونا، سوکھنا۔ جَفَّفَ ہ: کو خشک کرنا، سکھانا۔ جَفَاف: خشکی، خشک کرنا، سکھانا، بے حسی۔ تِجْفَاف جمع تجافيف: حفاظتی زرہ۔ تجفيف: خشک کرنا، سکھانا، پانی کا نکالنا۔ جافّ: خشک۔ قَلَمُ حِبرٍ جافٍ: بال پوائنٹ پین ball point pen۔ مُجَفَّف: خشک کیا ہوا، سکھایا ہوا، پانی نکالا ہوا۔ مُجَفَّفَات: کھانے کی چیزیں، جن سے پانی خارج کر دیا گیا ہو، پانی نکلی ہوئی اشیائے خوردنی۔

جفأ: ۱- جَفَأَ ۔جَفْأً الرجلَ و ــ بہ الارضَ: کو زمین پر پچھاڑنا، پٹک دینا۔ أَجْفَأَ بہ: کو پچھاڑنا۔

۲- جَفَأَ ۔جَفْأً النهرُ: دریا کا جھاگ اور کوڑا کرکٹ پھینکنا۔ ــ ت القدرُ: ہانڈی کا جھاگ یا جو چیز اس میں ہے کو اچھال پھینکنا۔ ــ القدرَ: ہانڈی کو جھکا کر اس میں سے چیز انڈیل دینا۔ اِجْتَفَأَ الشیءَ: کو اکھیڑ کر پھینکنا (سیلاب کا)۔ الجُفَاء: دریا کے دونوں کناروں پر سیلاب کی پھینکی ہوئی چیزیں مثل خس و خاشاک، بے فائدہ جھوٹ، رائیگاں۔ کہا جاتا ہے: ذَهَبَ جُفَاءً: وہ رائیگاں گیا۔

۳- أَجْفَأَ الباب: دروازہ بند کرنا۔

۴- أَجْفَأَ الناقةَ: اونٹنی کو چلا کر تھکا دینا۔

۵- أَجْفَأَ و تَجَفَّأَ البلادُ: ملک کا بے برکت ہونا۔

○ جُفَاء: بے کار، لاحاصل، ناکام، فضول، ناکارہ، بے اثر، بے نتیجہ۔ ذَهَبَ جُفَاءً: فضول ہوا، بیکار گیا، لاحاصل ہوا، یونہی گیا، بے نتیجہ رہا، بے اثر رہا۔

جفت: ۱- جُفْت: ترکی لفظ بمعنی جوڑا یا دو، اسی سے دو مونہی بندوق کو جفت کہا جاتا ہے۔

۲- جِفْتِلِك: ترکی لفظ بمعنی مزروعہ زمین، کسانوں کے گھروں اور ان سے متصل زمینوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

○ جِفْت و جُفْت (تلفظ سِفت): سنسی، چمٹا، موچنا، دست پناہ، لگ چونٹی، نک چونٹی، چمٹی، دھاتی شکنجہ۔ جفتُ شریان: شریانی شکنجے۔

○ جِفْتِيشي: تلفظ سِفْتيسي: زردوزی، طلاکاری، سلمہ ستارے کا کام، سنہرے نقش و نگار، کوئی نفیس بھڑکیلی چیز۔

○ جِفْتِلِك: مزروعہ زمین، چک، زراعتی تجربات کے لئے مخصوص زمین، دیہاتی جاگیر، سرکاری زمین۔

جفخ: جَفَخَ ۔جَفْخًا: تکبر کرنا۔ صفت: جَفَّاخ۔ جافَخَ ہ: کے مقابلہ میں فخر کرنا۔

جفر: ۱- جَفَرَ ۔جَفْرًا و تَجَفَّرَ و اِسْتَجْفَرَ ولدُ الشاةِ: بکری کے بچے کا بڑا ہونا، اور بڑے پیٹ والا ہونا۔ ــ الشیءُ: کشادہ ہونا، وسیع ہونا۔ الجَفْر (مص) جمع جِفار: کشادہ کنواں۔ الجُفْرة جمع جُفَر و جِفار من الشیءِ: چیز کا درمیان۔ ــ من الارض: گول پھیلی ہوئی زمین۔

۲- جَفَرَ ۔جَفْرًا من المرض: بیماری سے نجات پانا۔ ــ ما كان فيه: کی چیز کو چھوڑ دینا۔ ــ صاحِبَہ: ساتھی سے قطع تعلق کرنا، کے پاس جانا چھوڑ دینا۔

۳- الجَفْر: کہا جاتا ہے: فعلتُ ذلك من جَفْرٍ او من جَفْرِ كذا: میں نے اس کو اس کی وجہ سے کیا۔ فلانٌ منهدمُ الجَفْر: فلاں شخص اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا۔ علمُ الجَفْر (اسے علمُ الحُرُوف بھی کہا جاتا ہے)۔ وہ علم جس کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے ذریعے فنائے عالم تک ہونے والے حالات اور واقعات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ الجفير: محض لکڑی یا محض چمڑے کا ترکش۔

○ عِلمُ الجَفْر: پیشین گوئی، علم غیب، قسمت کا حال بتانے کا علم۔ جُفْرَة جمع جُفَر: گڑھا، سوراخ، چھید۔

جفس: جَفِسَ ۔جَفَسًا و جَفَاسَةً: کو بدہضمی ہونا۔ الجِفْس و الجَفْس و الجَفِيس: کمزور، کمینہ۔

جفظ: جَفَظَ ۔جَفْظًا الإناءَ: برتن کو بھرنا۔ اِجْفَأَظَّ و اِجْفَاظَّ اِجفيظاظًا المقتولُ: مردہ لاش کا پھولنا۔

صفت: جَفِيظ۔

جفع: جَفَعَ ـجَفْعًا ہ: کو پچھاڑنا۔

جفل: ا۔ جَفَلَ ـجُفُولاً و جَفْلاً البعيرُ: اونٹ کا بدکنا اور بھاگ جانا۔ صفت: جافِل و جَفَّال۔ ــ تِ النَعَامةُ: شتر مرغ کا بھاگ جانا۔ ــ ـجَفْلاً الطائِرَ: پرندے کو ہنکانا (کہا جاتا ہے: جَفَلَ القَنَّاصُ الوحش من مراعيها: شکاری نے وحشی جانوروں کو ان کی چراگاہوں سے بدکا کر بھگا دیا)۔ و تَجَفَّلَ و اِنْجَفَلَ القومُ: لوگوں کا تیز بھاگنا۔ جَفَّلَ ہ: کو بدکانا، خوفزدہ کرنا۔ أَجْفَلَ البعيرُ: اونٹ کا بدکنا، بھاگ جانا۔ تَجَفَّلَ الديكُ: مرغ کا گلے کے پروں کو پھلانا۔ الجَفُولُ جمع جُفُول: ہر چیز سے بدکنے والا شتر مرغ۔ الإجْفِيل: بزدل۔

۲۔ جَفَلَ ـجُفُولاً و جَفْلاً تِ الريحُ: ہوا کا تیز چلنا۔ ــ ـجَفْلاً تِ الريحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو اڑا لیجانا۔ أَجْفَلَتِ الريحُ: ہوا کا تیز چلنا۔ الجَفْل (مص) جمع جُفُول: بارش کے بعد کا پانی سے خالی بادل۔ رِيحٌ جَفُول جمع جُفُل و مَجْفِل و مِجْفَال: بادل کو اڑا لیجانے والی تیز ہوا۔

۳۔ جَفَلَ ـجَفْلاً و جَفَلَ الطينَ: مٹی کو بیلچے سے کھرچ لینا۔

۴۔ جَفَلَ ـجَفْلاً البحر السمكَ: سمندر کا مچھلی کو کنارے پر ڈال دینا۔ ــ ہ: کو پچھاڑ دینا۔ ــ المتاعَ: سامان پر سامان رکھ دینا۔ الجُفال: کناروں پر سیلاب کا ڈالا ہوا خس و خاشاک۔ الجُفَالة من القِدر: چمچ کے ذریعے ہانڈی سے نکالا ہوا جھاگ وغیرہ۔

۵۔ الجَفْل جمع جُفُول: ہاتھی کی لید، کشتی۔ الجُفْلة: اون کا گچھا۔ الجَفْلة من الشجر: بہت پتوں والا درخت۔ الجُفَال: دودھ کی جھاگ، بہت سی اون۔ الجَفِيل: بہت، کثیر، فصل اونچی ہونے پر ہلکا کرنے کے لئے اس کا وہ حصہ جو چھانٹ دیا جائے۔ الجَفَلى: کسی اختصاص کے بغیر کھانے کی عام دعوت۔ کہا جاتا ہے: دُعِيَ فلانٌ في النَقَرَى لا في الجَفَلَى: فلاں شخص کو خصوصی دعوت میں بلایا گیا نہ کہ عام دعوت میں۔

۶۔ الجَفْلَق: بہت موٹی بوڑھی عورت۔

○ جَفَلَ ـجَفْلاً و جُفُولاً و اَجْفَلَ: بدکنا، بھڑکنا، چونک اٹھنا، دھک سے رہ جانا، خوف و دہشت سے اچھل پڑنا، (گھوڑے کا) بھڑکنا، بدکنا۔ جَفَّلَ ہ/ہ: چیز کو شروع کرنا، کسی کو جگانا، بیدار کرنا۔ ــ ہ: کو ڈرا کر بھگا دینا۔ جَفْل و جُفُول: خوف، دہشت، بھڑک ــ پڑنا، چونک پڑنا، بدکنا۔

جفن: ا۔ جَفَنَ ـجَفْنًا نفسَه: اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا۔

۲۔ جَفَنَ ـجَفْنًا الناقةَ: اونٹنی کو ذبح کرکے اس کا گوشت بڑے بڑے پیالوں میں کھلانا۔ الجَفْنَة جمع جِفَن و جِفَان و جَفَنَات: بڑا پیالہ، چھوٹا کنواں۔

۳۔ جَفَنَ ـ و تَجَفَّنَ الكرمُ: انگور کی بیل کا جڑ پکڑنا۔ الجَفْن جمع اَجْفَان و جُفُون و اَجْفُن: واحد جَفْنة: انگور کی بیل کی جڑ یا ٹہنیاں۔ الجَفْنَة جمع جِفَن و جفان و جَفَنات: شراب۔

۴۔ الجَفْن جمع اَجْفَان و جُفُون و اَجْفُن: تلوار کی میان، اوپر نیچے کا پپوٹا۔

○ جَفْن جمع جُفُون و أَجْفَان: پپوٹا۔ جَفْنَة جمع جِفَان و جَفَنَات: پیالہ، کاسہ، انگور کی بیل۔

جفا: ا۔ جَفَا يَجْفُو جَفَاءً و جَفَاءَةً: ایک جگہ قرار نہ پکڑنا۔ ــ جنبُهُ عن الفراش: بستر پر قرار نہ پانا۔ اَجْفَى الخيلَ: گھوڑے کو تھکا دینا اور چارہ نہ کھانے دینا۔ تَجَافَى: جگہ سے علیحدہ ہونا، جگہ پر نہ رہنا۔ کہا جاتا ہے: تَجَافَى السرجُ عن ظهر الفرس: زین گھوڑے کی پیٹھ سے ہٹ گئی۔ تَجَافَى جَنْبُهُ عن الفَراش: اس کا پہلو بستر سے دور رہا۔ ــ عن مكانه: پر قرار نہ پانا۔ اِجْتَفَى الشيءَ: کو اس کی جگہ سے ہٹانا، دور کرنا۔

۲۔ جَفَا يَجْفُو جَفَاءً و جَفَاءَةً الثوبُ: کپڑے کا موٹا، دبیز اور گاڑھا ہونا۔ اِسْتَجْفَى استجفاءً الشيءَ: کو موٹا یا کھردرا سمجھنا۔

۳۔ جَفَا يَجْفُو جَفَاءً و جَفَاءَةً عليه كذا: کسی پر کچھ گراں ہونا۔ ــ ـجَفْواً و جَفَاءً و جَفًا صاحبَهُ: سے اعراض کرنا، بدسلوکی کرنا۔ جَفَّاہ: کو بد اخلاق بنا دینا۔ جَافَى الرجلَ: سے بدسلوکی کرنا۔ اَجْفَى فلانًا: کو دور کرنا۔ اِسْتَجْفَى اِسْتِجفاءً ہ: سے دوری چاہنا۔ الجَفْوَة و الجِفْوَة: اجڈ پن، اکھڑ پن، بدسلوکی۔ الجَافِي جمع جُفَاة مونث جَافِيَة جمع جافيات و جَوَافٍ: موٹا۔ جَافِيُّ الخُلُق: اجڈ، بد اخلاق۔

○ جَفَا ـجَفْواً و جَفَاءً: کھردرا ہونا، گاڑھا ہونا، موٹا ہونا۔ ــ ہ: سے درشتی سے پیش آنا، سختی سے پیش آنا، سے اعراض کرنا، سے بچنا، سے پہلو بچانا، کنی کترانا، سے پہلوتہی کرنا، بھاگنا۔ جَافَى ہ: سے سخت سلوک کرنا، سے گستاخی سے پیش آنا، سختی سے پیش آنا، پر ظلم کرنا، سے بگڑا ہوا ہونا، سے منہ کو بھاگنا، گریز کرنا۔ ہ: (عزت نفس، اپنے ذوق وغیرہ) کو ٹھیس پہنچانا۔ تَجَافَى عن: سے پیچھے ہٹنا، سے نفرت کرنا، بیزار ہونا۔ ــ ہ: سے بچنا، سے پہلو بچانا، کنی کترانا۔ ــ: گستاخانہ تہذیب کا مظاہرہ کرنا، غنڈا پن کرنا۔ جَفْو: سختی، اکھڑ پن، بدمزاجی، رکھائی، کھردرا پن۔ جَفْوَة: اکھڑ پن، کھردرا پن، بدمزاجی، رکھائی، بے مہری، بیگانگی، کشیدگی، مفارقت، اجنبیت، اختلاف، نااتفاقی، ان بن، نزاع، جھگڑا۔ جَفَاء: اکھڑ پن، کھردرا پن، بدمزاجی، رکھائی، سختی، سنگدلی، بے رحمی، نفرت، بیر، دشمنی، بدمزگی، ناپسندیدگی، بے مہری، بیگانگی، کشیدگی، مفارقت، اجنبیت۔ اَجْفَى إلى: سے زیادہ باز رہنے والا، منہ پھیرنے والا، بچنے یا ہٹنے والا۔ جَافٍ جمع جُفَاة: سخت، کھردرا، گاڑھا، موٹا، گاڈوی، گھامڑ، گنواروں کا سا، غیر مہذب، گستاخ، سخت۔

جفی: جَفَى ـجَفْيًا الرجلَ: کو پچھاڑ دینا۔ ــ و اِجْتَفَى النباتَ: پودے کو جڑ سے اکھیڑ دینا۔

جقّ: جَقَّ ـجَقًّا الطائرُ: پرندے کا بیٹ کرنا۔

جكر: جَكِرَ ـجَكَراً و اَجْكَرَ: بیچنے میں اصرار کرنا۔

○ جَاكَرَہ: کو دق کرنا، تنگ کرنا، ستانا، سے چھیڑ خانی کرنا، کے پیچھے پڑنا، کے گلے کا ہار ہو جانا۔

جلّ: ا۔ جَلَّ ـجَلالاً و جَلالَةً: عمر میں بڑا ہونا صفت: جليل جمع اَجِلاَّء و اَجِلَّة و جِلّة و جِلّ و جَلٌّ و جَلاَل و جُلاَل۔ الجِلّ: عمر میں بڑا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ جِلٌّ: سن رسیدہ آدمی۔

۲۔ جَلَّ ـ و تَجَالَّ عن كذا: سے کہیں بالا ہونا، بالاتر ہونا، اپنے کو کسی چیز سے بالا سمجھنا۔ اَجَلَّ اجلالاً ہ عن العيب: کو برائی سے بالا سمجھنا یا قرار دینا۔

۳۔ جَلَّ ـجَلالاً و جَلاَلَةً: جسم میں بڑا ہونا، بڑی شان والا ہونا۔ آپ کہتے ہیں: جَلَّ فلانٌ في عيني: فلاں شخص میری نظر میں بڑے مرتبے والا ہو گیا۔ جَلَّلَ الرجلَ: کی تعظیم بجالانا۔ اَجَلَّ اجلالاً ہ: کی تعظیم کرنا۔ تَجَالَّ عليه: سے بڑا بننا۔ تَجَلَّلَ: بڑا بننا۔ الجُلّ: موٹا، بھاری۔ الجِلّ: بہت۔ کہتے ہیں: ماله دِقٌّ ولا جِلٌّ: اس کے پاس تھوڑا ہے نہ بہت۔ الجَلَل من الأمور: بڑا معاملہ، سہل اور آسان امر۔ کہا جاتا ہے: فعلتُه مِن جَلَلِك و من إجلالِك و من تجلّتِك: میں نے تمہاری خاطر اور تمہاری تعظیم کے لئے یہ کیا۔ الجُلّة جمع جِلاَل و جُلَل: بڑا ٹوکرا۔ جِلّة (جلیل کی جمع): کہا جاتا ہے: قومٌ جِلّة: بڑے اور سردار لوگ۔ الجُلَّى جمع جُلَل (الاَجَلّ کا مونث): بہت بڑا، سخت کام، بڑا معاملہ۔ التَجِلَّة:

بزرگی وعظمت۔ المَجَلَّة پُرحکمت مقالہ، رسالہ، کاپی۔

۴- جَلَّ -جَلاًّ و جِلَّةً و اِجْتَلَّ الشی چیز کے بڑے حصہ کو لینا۔ جُلُّ الشی چیز کا بڑا اور کثیر حصہ۔ البیت خیمہ نصب کرنے کی جگہ۔ المَجَلُّ من الارض جمع الجَلائل دیوار اور جانی ہوئی حدود کا قطعہ، زمین۔

۵- جَلَّ -جُلُولاً و جَلاءً اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلا جانا۔ صفت: جالٌّ جمع جَالَّة۔ الجَالَّة اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا بسنے والے لوگ۔

۶- جَلَّ -جَلاًّ و جَلَّةً و اجْتَلَّ البعر مینگنیاں چننا، اٹھانا۔ الجِلَّة (بتثلیث الجیم) مینگنی۔

۷- جَلَّ -جَلاًّ الفرسَ: گھوڑے پر جھول ڈالنا۔ جَلَّلَ الشیُ چیز کا عام ہونا۔ — الشی چیز کو ڈھانپنا، اسی سے ہے: جَلَّلَ المطرُ الارضَ بارش نے زمین کو ڈھانپ لیا۔ — الفرس گھوڑے پر جھول ڈالنا۔ تَجَلَّلَ بالثوب کپڑا اوڑھنا۔ — ہ پر غالب ہونا۔ الجُلُّ جمع جِلال و أَجْلال جانور کا جھول۔ الجَلُّ جمع جُلُول بادبان۔ — جمع جِلال اجلال جانور کا جھول۔ المِجَلُّ من الـ... قالین، کمبل، چادریں وغیرہ۔ المُجَلِّل (فا) سحاب مُجَلِّل ہمہ گیر بارش برسانے والا بادل۔ امرٌ مُجَلِّل عام معاملہ۔

۸- اَجَلَّ اِجلالاً عمروٌ زیداً عمرو کا زید کو بہت دینا۔ کہا جاتا ہے: اتیتُ فلاناً فما اَجَلَّنی و ما اَدَقَّنی میں فلاں شخص کے پاس گیا تو اس نے مجھے نہ زیادہ دیا نہ تھوڑا۔

۹- اَجَلَّ اجلالاً الرجلُ قوی ہونا، کمزور ہونا (ضد)۔

۱۰- الجُلُّ جمع جُلُول (واحد جُلَّة) (ن) چنبیلی، سفید، سرخ یا زرد گلاب کا پھول۔

○ جَلَّ -جَلالاً عظیم ہونا، بلند مرتبہ یا بلند پایہ ہونا، سرفراز ہونا، ممتاز ہونا، مشہور ومعروف ہونا، نامور ہونا، عالی مرتبہ ہونا، گرامی قدر ہونا، ذی شان ہونا، عالی وقار ہونا، بلند ورفیع ہونا، برتر ہونا۔ — عن بہ کے لئے بہت بڑا ہونا، سے ماورا ہونا، سے بلندتر و بالاتر ہونا۔ جَلَّ عن الحصر ان گنت ہونا، بیشمار ہونا۔ جَلَّلَ ہ کا ادب کرنا، کی عزت کرنا، کی تعظیم کرنا، کو ممتاز کرنا، کو سرفراز کرنا، کی عزت بڑھانا، کی تکریم کرنا، کو حرمت دینا، کو بلند کرنا، اونچا کرنا۔ — کو ڈھانپنا (جیسے زمین کو پودوں کا یا برف کا)۔ — ہ بہ کسی چیز سے حاشیہ لگانا، گوٹ لگانا، سنجاف لگانا، کی سے حد بندی کرنا، سے کسی چیز سے متصل ہونا، پر سے جھالر لگانا، کا سے کنارہ بنانا۔ — ہ کو ملفوف کرنا، چھپانا، کو کپڑے سے آراستہ کرنا، کو کپڑا اوڑھانا یا پہنانا۔ اَجَلَّ ہ کا ادب کرنا، کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، کو حرمت دینا، کی تعظیم وتکریم کرنا، کا احترام کرنا، کو عزیز رکھنا، کی بہت عزت کرنا، کو ممتاز کرنا، سرفراز کرنا، کو بلند کرنا، کا درجہ یا منصب بڑھانا۔ — عن بہ کے لئے بہت اونچا سمجھنا، کو سے بہت بالا و بالا خیال کرنا۔ — تَجالَّ عن خود کو سے بالا یا بالاتر سمجھنا۔ اِستَجَلَّ بڑا ہونا، عظیم ہونا، سرفراز ہونا، بلند ہونا، رفیع ہونا، برتر ہونا۔ جَلٌّ بڑا، ممتاز، بھاری، قد آور۔ جُلٌّ بڑا حصہ، کثیر تعداد، بڑائی، بزرگی۔ جُلُّہ کی اکثریت۔ جُلُّ ما فیہ اس کے بڑے مضامین، اس کے بڑے محتویات۔ وجُلُّ ما یقال انہ: کم از کم اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ۔ جَلَل اہم، بہت اہم، بوجھل۔ جَلَلٌ جمع جُلَل بڑی اہمیت کا معاملہ، بہت اہم کام، بڑا کارنامہ، کارنمایاں۔ جُلَّة و جِلَّة: گوبر، لید۔ جُلَّة جمع جُلَل بم، توپ کا گولہ۔ جُلَّة پوشاک، لباس۔ الجُلَّة الحَبْرَوِیَّة (الکہنوتیة) پوشاکی (پادریانہ) خصلتیں، پوشاکیں۔ جَلیل جمع اجلاء و اَجِلَّة و جلائل بڑا، اہم، بوجھل، ضروری، مہتمم بالشان، بلند، بالا، رفیع، سرفراز، برتر، پرجلال، محترم، قابل احترام، مقدس، شاندار، عالیشان، پرشکوہ۔ جَلال بلندی، جلال، بڑائی، بڑی شان، اعلیٰ مرتبہ، طمطراق، چمک دمک، درخشانی، جلوہ بزرگی، عظمت، شان کبریائی۔ جَلالة شان وشوکت، سربلندی، رفعت، بلندی، شان، جاہ و جلال، کروفر، عظمت، شاہی منصب، صاحب (صاحبة) الجلالة حضور پرنور، ملک معظم، جہاں پناہ، اعلیٰ حضرت (علیا حضرت) ولی نعمت۔ جلالة الملك (جلالة الملكة)۔ جلالةُ المَلِك اعلیٰ حضرت (علیا حضرت)، جہاں پناہ بادشاہ۔ اَجَلُّ زیادہ بڑا، زیادہ بلند، زیادہ شاندار۔ مَجَلَّة جمع مَجَلّات اخبار، رسالہ وغیرہ، میگزین، ریویو (review)۔ مَجَلَّة اُسبوعیة ہفت روزہ، ہفتہ وار رسالہ۔ مجلة شهرية ماہنامہ۔ مَجَلَّة خاصة بہ کے لئے پیشہ ورانہ رسالہ۔ مَجَلَّةُ الأحكام قانون کی کتاب، ضابطہ قانون، مجموعہ قوانین۔ مَجَلَّة القوانين: بمعنی مجلة الأحكام۔ تَجِلَّة و اجلال ادب، عزت، احترام، امتیاز، تعظیم، لحاظ، پاس، تعظیم وتکریم۔ — گلاب کا پھول۔

جلا: جَلاً -جَلاًّ و جَلاً و جَلاءَةً ہ: کو پچھاڑ دینا، زمین پر گرا دینا۔ — بالثوب کپڑے کو پھینک دینا۔

جلب ۱- جَلَبَ -جَلْبًا و جَلَبًا الرجلُ ہانکا جانا۔ — ہ: کو ہانک کر لانا۔ — و أَجْلَبَ لاهله اہل وعیال کے لئے کمانا۔ اِنجَلَبَ ہانکا جانا۔ اِجتَلَبَ ہ کو لانا، لے کر آنا۔ اِستَجلَبَ ہ کو لانے کا باعث ہونا، یا اس کو لانے کا طالب ہونا۔ جُلْبُ الرَّحْلِ و جُلْبُہُ کجاوے کی لکڑیاں۔ الجَلَب (مص) جمع أَجلاب درآمدی مال۔ الجُلْب جمع جُلَب پالان پر لگایا جانے والا چمڑہ۔ الجَلُوبَة باربرداری کے اونٹ (واحد وجمع کے لئے یکساں)، درآمدی مال۔ الجلیب جمع جَلْبَی و جُلَباء لایا ہوا۔ کہا جاتا ہے: عبدٌ جَلیبٌ و امراةٌ جلیبٌ و جَلیبة درآمد شدہ غلام، کہیں سے لائی ہوئی عورت۔ جمع جَلْبَی و جَلائب لائی ہوئی۔ الجَلیبة جمع جَلائب لائی ہوئیں۔ الجَلَّاب غلاموں کو ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کے لئے لیجانے والا۔ المَجْلَبَة: کسی شئے کو حاصل کرنے کا سبب یا سے لانے پر اکسانے والا اور اس کی دعوت دینے والا۔ الجُلُبَّان چنے کا تھیلا۔

۲- جَلَبَ -و أَجْلَبَ القوم لوگوں کو جمع کرنا۔ — القوم لوگوں کا جنگ کے لئے ہر طرف سے آ کر اکٹھا ہونا، شوروغل مچانا اور ان کی آوازوں کا گڈمڈ ہو جانا۔ — علی الفرس: گھوڑے کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور گھوڑ دوڑ پر اکسانا۔ جَلِبَ -جَلَبًا اکٹھا ہونا۔ جَلَّبَ القومُ: لوگوں کا چیخنا اور شوروغل کرنا۔ — علی الفرس: گھوڑے کو ڈانٹنا ڈپٹنا۔ الجَلَب و الجَلَبَة شوروغل، غل غپاڑہ، شوروغوغا۔ الجَلّاب و المُجَلِّب: چلانے والا، بکواسی، بدخلق۔ رجلٌ جُلُبّان و جُلُبَّان شور مچانے والا آدمی۔

۳- جَلَبَ -و اَجْلَبَ ہ کو دھمکانا۔

۴- جَلَبَ -جَلْبًا و جُلُوبًا الدمُ خون خشک ہونا۔ — الجرحُ زخم کا اچھا ہونا۔ اَجْلَبَ الدمُ خون کا خشک ہونا۔ الجُلْبَة جمع جُلَب کھرنڈ۔

۵- جَلَبَ -جَلْبًا علیہ کے خلاف جرم کرنا، گناہ کرنا۔ الجَلْب (مص) گناہ، جرم۔

۶- الجُلُب پانی سے خالی بادل، پہاڑ کی طرح پھیلا ہوا بادل، رات کی تاریکی۔ الجُلْبَة جمع جُلَب۔ جُلْبَة بتہ پتھر جن میں جانوروں کے لئے رستہ نہ رہے، گھاس کے متفرق قطعے، سبز کانٹے دار درخت، بادل کا ٹکڑا۔ جُلْبَةُ الشتاء کڑاکے کی سردی۔ الجَلَبَة

(طب) ایک قسم کی جڑی بوٹی کی جڑ جو قبض کشا اور یہ
تیار کرنے کے کام آتی ہے۔ الجُلاب و الجُلّاب:
عرق گلاب میں شہد یا شکر سے تیار کیا ہوا شربت، عرق
گلاب (فارسی لفظ)۔ الجُلبان و الجُلُبان (ن):
ایک قسم کا پودا جسے دانوں، گھاس یا مختلف رنگ کے
پھولوں کے لئے کاشت کیا جاتا ہے۔

۷۔ جَلبَبَ ہ و تَجَلبَبَ: کو چادر یا قمیص پہنانا اور اس کا
چادر یا قمیص پہننا۔ الجِلبَاب و الجِلِبّاب جمع
جلابیب: قمیض یا چادر۔

○ جُلاب و جُلّاب: عرق گلاب، جلاب، شربت
گلاب۔

○ جلاتین: جیلی، مربع نما مٹھائی، جمائی ہوئی چمکدار اور
نرم مٹھائی (jelly)۔

○ جلاسِیۃ: بکری کے بچہ کا چمڑا۔

○ جَلَبَ ـ جَلبًا ہ: کو کشش کرنا۔ ہ لِ: کو کے پاس
لے کر آنا، لے آنا، لانا، کوئی چیز کسی کو فراہم کرنا۔ ہ:
(سامانِ تجارت یا مال تجارت) درآمد کرنا؛ (کسی
حالت وغیرہ) کا باعث ہونا۔ ہ علی: کسی کو پہنچنے
والی تکلیف، شرمساری وغیرہ کا ذمہ دار ہونا۔ ہ: کو
حاصل کرنا، جیتنا، کو کمانا، کا کسب کرنا۔ جلوبًا: زخم کا
مندمل ہونا، (زخم پر) کھرنڈ آنا۔ جَلَّبَ: شور وغل
کرنا، چیخنا، چیخ و پکار کرنا، چلانا، شور مچانا، ادھم مچانا۔
اَجلَبَ ہ: کو کمانا، حاصل کرنا، پانا، کا مالک بننا، کا
اکتساب کرنا، شور مچانا، چیخ و پکار کرنا، ادھم مچانا۔
اِنجَلَبَ: جلب کا معنی مجہول کا صیغہ۔ یعنی کھنچا جانا،
آنا، فراہم ہونا۔ اِجتَلَبَ ہ: کو لے کر آنا، لانا،
حاصل کرنا، کا سبب ہونا، کا کش لینا، (مال تجارت) کو
درآمد کرنا۔ اِستَجلَبَ ہ: (مال تجارت) کو درآمد
کرنا۔ ــــ ہ: کو لے کر آنا، کو بلوانا، بلانا، بلا بھیجنا، کی
خدمات طلب کرنا۔ ــــ ہ/ ہ: کو کشش کرنا، کو لانا، کو
کشش کرنا یا جیتنا چاہنا۔ ــــ ہ: کو حاصل کرنا، کا سبب
ہونا۔ جُلب: لانا، لے کر آنا، حصول، فراہمی،
اکتساب، تحصیل، درآمد کی اشیاء، درآمد، سبب بننا،
سبب ہونا، کا باعث ہونا، شروع کرنا، سلسلہ چھیڑنا۔
جَلَبَ: درآمدہ، غیر ملکی۔ جَلَب و جَلَبَة: شور وغل،
ہنگامہ، شورش، بلوہ، دنگا شور غوغا، الچل، کھلبلی،
اضطراب۔ جُلبَة: کھرنڈ، زخم کا نشان۔ جلیب:
درآمدہ، غیر ملکی جمع جُلَبَاء و جَلبَی: غیر ملکی غلام۔
جَلّاب: دلکش، دلربا، گرویدہ کرنے والا، دل موہ
لینے والا، فریفتہ کرنے والا، درآمد کنندہ، تاجر،
بیوپاری۔ جَلّاب العَبید: لونڈی غلاموں کا تاجر۔

جَلابِیَۃ جمع جلابیات و جلالیب: مصر میں ڈھیلا
ڈھالا قمیص کا سا مردوں کا عام لباس۔ جلباب:
دیکھئے جلب میں۔ اَجلَب: زیادہ دلکش، زیادہ موہ
لینے والا، زیادہ فریفتہ کرنے والا، زیادہ دلربا، زیادہ
گرویدہ کرنے والا۔ مَجلَبَة جمع مَجَالِب: سببی
عامل، وجہ تحریک، منشا، مقصد، وجہ، موجب، سبب،
باعث، علت، موقع۔ اِستِجلاب: فراہمی، حصول،
اکتساب، تحصیل، درآمد، اشیائے درآمد، بہم پہنچانا، مہیا
کرنا، حاضر کرنا، منگا دینا، کشش۔ استجلاب
السائحین: سیاحوں کی حمل ونقل کا فروغ۔ جَالِب
بمعنی عامل، عامل، وجہ و تحریک، منشا، مقصد، وجہ،
سبب، باعث، موقع۔ جُلّاب: عرق گلاب، گلاب کا
شربت۔ جَلبَا: گل عباسی کی جڑ جو مسہل کا کام دیتی
ہے۔

○ (جَلبَبَ) ـ تَجَلبَبَ ب: سے ملبوس ہونا۔ جِلباب
جمع جَلابِیب: لباس، پوشاک، پشواز، عورتوں کا
لباس، سایہ، جبہ، چغا۔ جُلُبّان: پھلی دار پودے جو
چارے کے کام آتے ہیں، مٹر کا پودا۔

جلت: جَلَتَ ـ جَلتًا و اِجتَلَتَ ہ: کو مارنا، پیٹنا۔

جلجل: ۱۔ جَلجَلَ الرجلُ: زور سے آواز نکالنا، چیخنا۔
ــ السحابُ: بادل کا گرجنا۔ ــ البعیرَ: اونٹ پر
گھونگرو لٹکانا، اونٹ کے جھانجھ باندھنا۔ الجَلاجِل
واحد جُلجُل: گھونگرو۔ الجَلجَلة (مص): بادل کی
گرج، کڑک، گھنٹی کی جھنکار۔ المُجَلجِل: قوی
سردار، دور تک پہنچنے والی آواز والا۔ المُجَلجِل:
گرجنے کڑکنے والا بادل۔

۲۔ جَلجَلَ الوترَ: تانت کو مضبوط باندھنا۔

۳۔ جَلجَلَ ہ: کو حرکت دینا، ہلانا۔ تَجَلجَلَ: حرکت
کرنا۔ ــــ فی الارض: زمین میں دھنسنا۔ ــــ ت
قواعدُ البیت: گھر کی بنیادوں کا ہل جانا۔ ــ الامرُ
فی نفسه: دل میں کسی خیال کا کھٹکنا۔ جَلاجِلُ
النفسِ: دل میں کھٹکنے والے خیالات۔ آپ کہتے
ہیں بثثتُهُ جَلاجِلَ نفسی: میں نے اس پر اپنے
دل کی باتیں کھول دیں۔

۴۔ الجُلجُل و الجُلاجِل: پھرتیلا، تیز دست، کام میں
چست۔ الجُلجُلة: عبرانی لفظ بمعنی جُمجُمة جو
اس پہاڑ کا نام ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح
علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ المُجَلجَل:
بے عیب ظریف۔ ــــ من الاعداد: بڑی تعداد۔
الجُلجُلان (ز): دھنئے کے دانے، کشنیز، تل، کنجد۔
جلجلانُ الشیءِ: بڑی چیز۔ جلجلانُ القلب:
سویدائے قلب، دل کا مرکز۔ کہتے ہیں خرج من
جُلجُلانِ القلب الی قمع الاذن: دل سے جو
بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔

○ جَلجَل: گونجنا، واپس مرتعش ہونا، کی گونج پیدا کرنا،
اونچی اور صاف آواز دینا، کھڑکھڑانا، جھن جھن کرنا۔
ہ: کو زور زور سے ہلانا۔ جُلجُل جمع جَلاجِل:
چھوٹی گھنٹی، گھوڑے کے ساز کی گھنٹی، گائے کے گلے کی
گھنٹی، جھنکار، چھن چھن، چھنا کا۔ جَلجَلة: گھنٹی کی
آواز بلند اور تیز آواز۔ مُجَلجِل: تیز، تیکھی، بہت اثر
کرنے والی (آواز وغیرہ) بجنے والی، بجتی ہوئی، گونج
دار، صدا دینے والا، گونجنے والا، منعکس ہونے والا۔
جُلجُلة و جُلجُلة الجبل: پہاڑ جس پر حضرت مسیح
کو صلیب پر لٹکانے کا اعتقاد کیا جاتا ہے
Golgotha۔ جُلجُلان: تل، کنجد، ہم ہم۔

جلح: جَلِحَ ـ جَلَحًا: سر کے دونوں جانب سے بالوں کا
گرنا۔ صفت أجلَح جمع جُلح و اجلاح و جُلحان
مونث جَلحَاء۔ ــ الثورُ: بیل کا بے سینگوں والا
ہونا۔ ــ ت القُری: بستیوں کے حفاظتی قلعوں کا باقی
نہ رہنا۔ بقرة جَلحاء: بے سینگوں کی گائے۔ قریة
جَلحَاء: بے قلعہ والی آبادی۔ سطوحٌ جَلحَاء:
کھلی چھتیں جن کے اطراف میں کوئی دیوار یا روک نہ
ہو۔ الجَلحَة: سر کے دونوں جانب بال گرنے کی
جگہ۔

۲۔ جَلَحَ ـ جَلحًا ت الارضُ: زمین کی گھاس کا چر لیا
جانا۔ جُلحَتِ الارض: زمین کی گھاس کا چر لیا جانا۔
ــ الشجرةُ: درخت کی شاخوں کا کھا لیا جانا۔ جَلَحَ
ـ جَلحًا و جَلَّحَ تِ الماشیةُ الشجرَ:
مویشیوں کا درخت کے اوپر کے حصہ کو چر جانا۔ ارض
جَلحاء: بے درخت زمین، بنجر زمین جو روئیدگی نہ
اگائے۔ جَالِحَة جمع جَوَالِح: سخت قحط زدہ۔
المَجلَح: بہت کھانے والا، پیٹو۔ المُجَالِح و
المِجلاح و المُجَلِّحة جمع مَجَالِیح: جاڑے
میں دودھ دینے والی اونٹنی۔ المَجَالِیح: مال کو تباہ
کرنے والے بربادی کے سال۔

۳۔ جَلَّحَ علی الشیءِ: زبردست پیش قدمی کرنا۔ ــ فی
الامر: کا پختہ ارادہ کرنا۔ ــ السبعُ علی القوم:
لوگوں پر درندے کا کود پڑنا، حملہ کرنا۔ جَالَحَ
بالشیءِ: کو صاف اور کھلے طریقے سے کرنا۔ ــ ہ:
سے کھلم کھلا دشمنی کرنا۔ الجُلاح: تباہ کن سیلاب۔
المَجَالِح (فا): شیر۔

۴۔ الجَوَالِح (ز): روئی کی مانند ایک شئے جو بانس کے

سرے سے نکل کر اڑتی یا گرتی ہے۔ ایک دوسرے پر گرنے والے برف کے ٹکڑے۔

○ جَلِخَ -جَلَخًا: بے پروبال، لنڈورا یا گنجا ہونا یا ہو جانا۔ أجلخ مونث جَلْخاء جمع جُلْخ: گنجے سر والا، بے پروبال، لنڈورا۔

جلخ: ا۔ جَلَخَ -جَلْخًا السیلُ الوادیَ: سیلاب کا وادی کو پانی سے بھر دینا، وادی کے کناروں کو توڑ دینا۔ الجُلاخ: زبردست سیلاب، گہری وادی۔

۲۔ جَلَخَ -جَلْخًا الشیءَ: کو کھینچنا، دراز کرنا۔ - بہ: کو پچھاڑ دینا۔

۳۔ جَلَخَ -جَلْخًا ہ بالسیف: کے گوشت میں سے تلوار کے ذریعے کچھ کاٹ لینا۔

۴۔ جَلَخَ و جَلَّخَ الموسی: استرے کو تیز کرنا، صیقل کرنا۔ مَجُلَخ (حی): چھریاں وغیرہ تیز کرنے اور تانبے وغیرہ کو صیقل کرنے کا آلہ۔

۵۔ اِجْلَخَ الشیخُ: بوڑھے کا کمزور ہو کر ڈھیلے اعضاء والا ہونا۔

○ جَلَخَ -جَلْخًا و جَلَّخَ ہ: کو تیز کرنا۔ — ہ: چاقو وغیرہ کو سان پر لگانا، استرا چمڑے پر تیز کرنا، (دھات) کو پھیلانا، بڑھانا، لمبا کرنا، بیلنا۔ جَلَخ: سان، سلّی، سان کا پتھر۔

جلد: ا۔ جَلَدَ -جَلْدًا ہ بالسوط: کو کوڑے مارنا۔ جَالَدَہ بالسیفِ: کو تلوار سے مارنا، سے جنگ کرنا۔ تَجالَدُوا و اِجْتَلَدُوا بالسیوف: باہم تلواروں سے لڑنا۔ الجَلّاد: کوڑے سے مارنے والا، تلوار سے مارنے والا، عموماً سزا دینے والا۔ المِجْلَد و المِجلاد جمع مَجالِد و مَجالِید: کوڑا، چمڑے کا ٹکڑا جس کو نوحہ کرنے والی اپنے منہ پر مارا کرتی تھی۔ المِجْلَدۃ: کوڑا۔ فرسٌ مُجَلَّدٌ: کوڑے سے نہ ڈرنے والا گھوڑا۔

۲۔ جَلِدَ -جَلَدًا و جُلِدَ و أُجْلِدَ المکانُ: کسی جگہ پالا پڑنا۔ صفت مَجْلُود۔ الجَلَد (مص): آسمان یا نیلا گنبد۔ الجَلِید جمع جِلْداء و جِلاد و جِلَد: پالا، ریفری جریٹروں وغیرہ میں جمی ہوئی برف۔ الجَلادۃ: اونچے پہاڑوں پر برف کے تودے۔

۳۔ جَلُدَ -جَلادَۃً و جُلُودًا و جَلَدًا و مَجْلُودًا الرجلُ: صبر و استقلال اور قوت والا ہونا۔ تَجَلَّدَ: مضبوطی دکھانا، صبر و استقلال کا اظہار کرنا۔ الجَلْد جمع أجْلاد مونث جَلْدَۃ: مضبوط قوی۔ الجَلَد و الجَلادَۃ: قوت، سختی، کرختگی، صبر، سخت زمین۔ الجَلِید جمع جُلَداء و جِلاد و جِلَد: قوی اور صابر، چالاک۔ الجِلاد: کھجور کے بڑے بڑے اور سخت درخت، بہت دودھ دینے والی اونٹنیاں۔

۴۔ جَلَدَ -جَلْدًا بہ الارضَ: کو زمین پر پٹکنا۔ — ہ علی الامر: کو کسی کام پر مجبور کرنا۔ أجْلَدَہ الیہ: کو کا محتاج بنانا، کو پر مجبور کرنا۔

۵۔ جَلَّدَ الکتابَ: کتاب کی جلد بندی کرنا۔ — الجَزُورَ: جانور کی کھال اتارنا۔ الجِلْد جمع أجْلاد و جُلُود: کھال۔ — و الجِلْدَۃ جمع جِلَد: کھال کا ٹکڑا یا قسم۔ کہا جاتا ہے: ھم مِن جِلْدَتِنا: وہ ہمارے ہی خاندان کے ہیں۔ ھم ابناءُ جِلْدَتِہ: وہ اسی کے خاندان سے ہیں۔ الجَلَد: بمعنی جِلْد۔ الجَلّاد: کھال بیچنے والا۔ عظمٌ مُجَلَّد: صرف کھال لگی ہوئی ہڈی۔ أجْلادُ و تَجالِیدُ الإنسانِ: انسان کا جسم اور اعضاء۔ آپ کہتے ہیں: ما أشبہ اجلادَ فلانٍ بأجلادِ ابیہ: فلاں شخص کے اعضاء بدن اس کے باپ کے اعضاء سے کس قدر ملتے جلتے ہیں۔

۶۔ اِجْتَلَدَ الإناءَ: برتن کا سارا پانی وغیرہ پی جانا۔

○ جَلَدَ -جَلْدًا ہ: کو کوڑے مارنا، چابک مارنا، کوچی یا بید سے مارنا، چھڑی سے مارنا۔ جَلِدَ -جَلَدًا: جمنا، منجمد ہونا، جم کر برف ہو جانا۔ جَلُدَ -ُ: سخت ہونا، مضبوط ہونا، ثابت قدم ہونا، پختہ ہونا، استوار ہونا، صابر ہونا، متحمل ہونا، مستقل مزاج ہونا، بے خوف ہونا۔ جَلَّدَ ہ: (کتاب وغیرہ کی) جلد باندھنا، کسی چیز کو برف بنانا۔ جَالَدَہ: کے ساتھ لڑائی کرنا۔ أجْلَدَ: جمنا، منجمد ہونا، جم کر برف ہو جانا، برف پوش ہونا۔ تَجَلَّدَ: کمر ہمت باندھنا، اپنے آپ کو سخت، مضبوط یا تنومند ظاہر کرنا، سمجھ دار ظاہر کرنا، صبر و استقلال پر راضی ہونا، برداشت کرنا، جھیلنا۔ تَجالَدَ: تلوار کی لڑائی میں مشغول ہونا۔ جَلْد: کوڑے، چابک وغیرہ مارنا۔ — جمع أجْلاد: پکا، سرگرم، پرجوش، ہٹا کٹا، قوی ہیکل، ثابت قدم، قوی، مضبوط۔ جِلْد جمع جُلُود و أجْلاد: کھال، ادھوڑی، چمڑا، چرم۔ جلد سُخْتِیان: مراکولیدر (morocco)۔ جلد لَمّاع: نرم چمکدار چمڑا patent leather۔ جِلْدَۃ: کھال، ادھوڑی، چمڑے کا ٹکڑا، نسل۔ ابنُ جِلْدَتِنا: ہمارا ہم وطن، ہمارے گاؤں کا، ہمارا ہم قبیلہ شخص۔ جمع بنو جِلْدَتِنا۔ جِلْدِی: کھال کا، جلد کے متعلق، جلدی امراض کے بارے میں۔ امراضٌ جِلْدِیَّۃ: جلدی بیماریاں۔ جُلَیْدَۃ جمع جُلَیْدات: جھلی، باریک جھلی یا پوست فلم (فوٹو)۔ جَـ[illegible]: صبر، برداشت، بردباری، تحمل، تحمل کی قوت، پائیداری، سہنا، جھیلنا، برداشت کرنا، استقلال، ثابت قدمی۔ جَلْدَۃ: چابک یا کوڑے کی ضرب۔ جَلِید جمع جُلَداء: پکا، مضبوط، پختہ، سرگرم، کٹر، پرجوش، زور آور، مضبوط جسم کا، گھٹا ہوا۔ جَلِید: برف۔ جبلُ جَلِید: برف کا تودہ، برف کی چٹان جو سمندر میں بہتی ہوئی آئے۔ قطعۃ من الجلید: برف کا تیرتا ہوا تودہ ice floe۔ جَلِیدی: برف کا، برف کے متعلق، برف پوش، برفانی۔ العصر الجلیدی: برف کا زمانہ، برفانی دور۔ جَلُود: صابر، صبر سے برداشت کرنے والا۔ جَلّاد جمع جَلّادُون: چمڑے کا بیوپاری، جلاد، پھانسی پر لٹکانے والا۔ جَلادَۃ و جُلُودَۃ: صبر و استقلال، برداشت، حوصلہ۔ مِجْلَدَۃ: کوڑا، چابک، تازیانہ، درہ۔ تَجْلِید: برف بنانا، جلد سازی، جلد بندی۔ جِلاد: لڑائی، جنگ۔ تَجَلُّد: صبر، برداشت، حوصلہ۔ مُجَلِّد الکتب: جلد ساز۔ مُجَلَّد: برف بنا ہوا، برف کا، برفانی، برف پوش، جلد بندھی ہوئی (کتاب وغیرہ) جمع مُجَلَّدات: کتاب (کتاب کی ایک) جلد۔ مُجالِد جمع مُجالِدون: تماشا گر، مُبارز (gladiator)۔ مُتَجَلِّد: صابر۔

جلذ: ا۔ اِجْلَوَّذَ اِجْلِوّاذًا: تیزی سے گذرنا۔ — اللیلُ: رات کا گزر جانا۔ — بھم السیرُ: لوگوں کا تیزی سے چلتا رہنا۔

۲۔ اِجْلَوَّذَ اجلِوّاذًا اللیلُ: رات کا دراز ہونا۔ — المطرُ: بارش کا وقت گزرنے پر بھی برستا رہنا۔

۳۔ الجُلَذ جمع مَناجِذ (دوسرے لفظ سے): (ح) چھچھوندر۔ الجُلْذِیّ و الجِلاذِیّ جمع جَلاذِیّ: گرجے کا خادم، راہب، پادری، کاری گر۔ الجُلَذِیّ و الجِلْوَذ: موٹا مضبوط اونٹ۔

○ جِلَّوْذ واحد جَلَّوذۃ: ایک پھل دار جھاڑی جس کے پھل کی گری کھائی جاتی ہے۔ اس پھل کی گری۔

جلز: ا۔ جَلَزَ -جَلْزًا الرأسَ: سر پر پٹی باندھنا۔ — الشیءَ الی الشیءِ: ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا۔ — و جَلَّزَ السِکِّینَ: چھری کا دستہ باندھنا۔ جُلْزُ السِنانِ: بھالے کے نیچے کا گول حصہ۔ الجِلاز جمع جَلائِز: کوڑے کے کنارے پر بندھا ہوا تسمہ۔ المَجْلُوز: محکم، مضبوط۔ کہا جاتا ہے فلانٌ مَجْلُوزُ العمل: فلاں شخص کا کام محکم ہے، وہ مضبوط کام کرتا ہے۔

۲۔ جَلَّزَ الرجلُ: جلدی چلنا، تیز چلنا۔ جَلَّوزَ بین یدی الامیر: حاکم کے سامنے آنے جانے میں چستی

دکھانا۔ تَجَلَّزَ لِلأمر: کسی کام کے لئے تیار ہونا، مستعد ہونا۔ الجَلُوزَة: آمد ورفت میں چستی، پھرتی۔ الجِلْوَاز جمع جَلاوِزَة: حاکم کے سامنے جانے آنے میں تیز قدم، سپاہی۔

۳۔ الجِلْوَزُ: قوی ہیکل، بہادر۔

جلس: ا۔ جَلَسَ ۔ جُلُوسًا و مَجْلَسًا: بیٹھنا۔ صفت: جالِس جمع جُلُوس و جُلاَّس۔ جَلَّسَ و أَجْلَسَ ہ: کو بٹھانا۔ جَالَسَ مُجَالَسَةً ہ: کے ساتھ بیٹھنا۔ اِسْتَجْلَسَ ہ: سے بیٹھنے کو کہنا۔ الجَلْس: سخت زمین۔ بلند زمین، بڑی سخت چٹان۔ کہا جاتا ہے: جمل جَلْسٌ: مضبوط اونٹ۔ ناقة جَلْسٌ: مضبوط اونٹنی۔ شُهْدٌ جَلْسٌ: گاڑھا شہد۔ الجلس و الجليس: ہم نشین، ساتھ بیٹھنے والا۔ الجَلْسَة: ایک بیٹھک۔ الجِلْسَة: بیٹھنے والے کی ہیئت۔ الجُلَسَة: بہت بیٹھنے والا۔ المَجْلِس: بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے والے۔ — النیابی: پارلیمنٹ (parliament)۔ مجلس قانون ساز، مقننہ، پارلیمان، مجازاً: نمائندگان، چنانچہ کہتے ہیں: اجتمع مجلسُ النواب: نمائندگان اکٹھے ہوئے۔ مَجْلِسُ الأَعْيَان: ایوان، سینیٹ (senate)۔ مجلسِ الشُّورَى: مقننہ، شوریٰ، مجلس شوریٰ۔ مجلس شورى الدولة: بمعنی مجلسُ الشورى state council۔ مجلسُ الشُّيُوخ: مجلس بزرگان council of elders، سینیٹ senate۔ المجلس البَلَدِيّ (مجلس البَلَدِيَة: لوکل کونسل، میونسپل کونسل، بلدیاتی کونسل، بلدیہ۔ المَجْلِسَة: بیٹھنے کی جگہ۔

۲۔ تَجَالَسُوا فی المحاكم: عدالتوں میں بیٹھ کر کرید کرید کر پوچھنا، بحث جاری رکھنا۔ الجَلْسَة فی اصطلاح المحاكم: اجلاسِ عدالت کا وقت، جس میں مقدموں کی سماعت کی جاتی ہے اور فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ اجلاس (عدالت)۔ المَجْلِس: کچہری، عدالت۔

○ جَلَسَ ۔ جُلُوسًا إلی: کے ساتھ بیٹھنا، میز وغیرہ پر بیٹھنا۔ — علی: (کرسی) پر بیٹھنا۔ جَلَسَ إلی الرَّسَّام: مصور کے سامنے (تصویر بنوانے کے لئے) بیٹھنا۔ جَالَسَ ہ: کے ساتھ، کے برابر یا کی صحبت میں بیٹھنا، کے ساتھ ہونا، کی معیت میں ہونا۔ أَجْلَسَ ہ: کو بیٹھنے کو کہنا، کو بٹھانا۔ جَلْسَة جمع جَلَسَات: نشست (جیسے سماعت خانہ میں)، (پارلیمنٹ، کمیٹی، عدالت وغیرہ کا) اجلاس، پارٹی، اجتماع، جلسہ۔ عَقَدَ جَلْسَة: اجلاس طلب کرنا، اجلاس کرنا۔ جَلْسَة عامَّة: اجلاس عام، جلسہ کامل۔ جِلْسَة: بیٹھنے کا انداز۔ جَلِيس جمع جُلَسَاء: سماجی اجتماع میں شرکت کرنے والا، دسترخوان کا ساتھی، ہم نشین۔ جَلِيسُهُ: وہ شخص جو پارٹی میں اس کے ساتھ تھا۔ جَلِيسَة: خاتون ساتھی، جلیس کا مؤنث۔ جُلُوس: بیٹھنا، تخت نشینی۔ جَالِس کی جمع۔ مَجْلِس جمع مَجَالِس: نشست، کمرہ اجلاس، کانفرنس کا کمرہ، پارٹی اجتماع، میٹنگ، سماجی اجتماع، اجلاس، بیٹھک، کونسل کا اجتماع، کونسل، کالج، بورڈ، کمیٹی، ماہرین کی جماعت یا وہ جماعت جسے کوئی خاص کام کرنے کا اختیار دیا گیا ہو یعنی Commission، انتظامی بورڈ، عدالت، خصوصی عدالت۔ فی مَجْلِسِهِ: کی موجودگی میں، کی معیت میں۔ مجلس التأدیب اور مجلس تأدیبی: انضباطی بورڈ۔ مجلس تاسیسی: آئین ساز یا دستور ساز اسمبلی۔ مجلسٌ آفاقِيٌّ: علاقائی عدالت۔ مجلس الأُمَّة: پارلیمان، پارلیمنٹ۔ مجلس الأمن: سلامتی کونسل۔ مجلس الحرب: وار کونسل، جنگی کونسل۔ مجلسٌ حَسْبِيٌّ: وصیت کی تصدیق کرنے والی کونسل (مسلمانوں کے لئے)۔ مجلسٌ مُخْتَلِط: مخلوط عدالت۔ مجلس الدفاع: دفاعی کونسل۔ مجلس الإدارة: انتظامی بورڈ، انتظامی کمیٹی، دفتر نظامت، (کارپوریشن یا بنک) کے انتظامیہ کے ارکان یا منتظمین کا بورڈ۔ مجلسُ المُدِيرِيَة: صوبائی کونسل، صوبائی پارلیمنٹ۔ مجلسُ الدَّوْلَة: انتظامی عدالت عظمیٰ۔ مجلسٌ رُوحِيٌّ: مذہبی عدالت، پاپا شاہی عدالت۔ مجلسُ الشُّيُوخ: سینیٹ، مجلس بزرگان۔ مجلسٌ عدليٌّ: عدالت، خصوصی عدالت۔ مجلسٌ عُرْفِيٌّ (یا عسکری): فوجی عدالت Courtmartial۔ مجلس مجلس عصبة الامم: اقوام متحدہ کی کونسل (Council of the League of Nations)۔ مجلس العموم: ایوان زیریں۔ مجلسُ الإقْتِرَاع: فوجی بھرتی کمشن، recruiting commision۔ مجلسٌ قَرَوِيٌّ: لوکل کونسل۔ مجلسٌ اقتصادِيٌّ: اقتصادی کونسل۔ مجلسٌ قَوْمِيٌّ: قومی اسمبلی nation assembly۔ مجلسُ قيادةِ الثورة: انقلابی، عدالت عظمیٰ۔ المجلس الكبير اور المجلس الأكبر: مجلس اعلیٰ۔ مجلس اللوردين: دارالامراء۔ مجلسُ النُّوَّاب: ایوان زیریں، ایوان نمائندگان۔ مجلس نیابی: پارلیمان، پارلیمنٹ۔ مجلس الجِهَة: صوبائی کونسل۔ مجلسُ الوزراء: کابینہ cabinet، وزراء کی کونسل۔ مُجَالَسَة: سماجی روابط۔ جَالِس جمع جُلُوس و جُلاَّس: بیٹھنے والا، بیٹھا ہوا جمع جُلاَّس: سماجی اجتماع میں شرکت کرنے والے۔

جلط: ا۔ جَلَطَ ۔ جَلْطًا: قسم کھانا، جھوٹ بولنا۔ جَالَطَ ہ: ایک دوسرے سے فریب کرنا۔

۲۔ جَلَطَ ۔ جَلْطًا السیفَ: تلوار سونتنا۔ — الجلدَ: کھال اتارنا۔ — الرأسَ: سر مونڈنا۔ اِنْجَلَطَ البعیرُ والشیءُ: اونٹ کا تیز چلنا، چیز کا پرانا ہونا، گھسنا۔ اِجْتَلَطَ ما فی الإناء: پیالہ میں جو کچھ ہو سب پی جانا۔

۳۔ جَلَطَ ۔ جَلْطًا بِسَلْحِهِ: بیٹ کرنا۔

۴۔ اِجْتَلَطَ ہ: کو اچک لینا۔

۵۔ الجُلْطَة: دہی کی تھوڑی مقدار، منجمد خون۔ کہا جاتا ہے: جُلْطَة دَمَوِيَّة: منجمد خون۔ الجَلوط من النساء: بے شرم عورت، بے حیا عورت۔

○ جَلَطَ ۔ جَلْطًا ہ: (کھال) کو ملنا، سہلانا، رگڑنا، کھرچ دینا، چھیلنا۔ — الرأسَ: سر مونڈنا۔ جُلْطَة: ڈلا، ڈلی، منجمد قطرہ، منجمد خون۔

جلع: ا۔ جَلِعَ ۔ جَلَعًا: کے ہونٹوں کے نہ ملنے کی وجہ سے دانتوں کا کھلنا۔ صفت: جَلِع و أَجْلَع مؤنث جَلِعَة و جَلْعاء۔ الجَلَعَة: ہنسنے کے وقت دانت کھلنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لطيفُ الجَلَعةِ: فلاں شخص نفیس منہ والا ہے۔

۲۔ جَلَعَ ۔ جُلُوعًا الرجل ثوبَهُ: لباس اتارنا۔ — تِ المرأةُ قِناعَها عن رأسها: عورت کا سر سے دوپٹہ اتارنا۔ اِنْجَلَعَ الشیءُ: چیز کا کھل جانا، منکشف ہونا۔ الجالِع: دوپٹہ کے بغیر، بے برقع، ننگے منہ، نمایاں۔

۳۔ جَلَعَ ۔ جُلُوعًا تِ المرأةُ: عورت کا بے حیا ہونا، فحش باتیں کرنا۔ صفت: جالِع و جالِعَة۔ جالع القوم: لوگوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، اور اول فول بکنا۔ الجالِع و الجَلْعَم: بے حیاء، بے شرم۔

۴۔ اِجْلَعَبَّ و اِجْلَعَدَّ: لیٹنا، بستر پر دراز ہونا۔ الجَلْعَد: سخت، مضبوط۔ الجُلاعِد جمع جَلاعِد من الإبل: سخت مضبوط اونٹ۔

جلغ: جَلَغَ ۔ جَلْغًا ہ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا، ٹکڑے کرنا۔ جَالَغَ: تلوار سے مقابلہ کرنا۔

جلف: ا۔ جَلَفَ ۔ جَلْفًا ہ: کو کھرچنا۔ (کہا جاتا ہے: جَلَفَ الطينَ عن الحجرِ: اس نے مٹی کو پتھر سے

کھرچ ڈالا)۔ — الشیءَ: کو کاٹنا۔ — الظفرَ: ناخن کو جڑ سے اکھیڑنا۔ — ہ بالسیف: تلوار سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لینا۔ اِجتَلَفَ ہ: کو جڑ سے اکھیڑنا، کی بیخ کنی کرنا۔ الجِلف جمع أجلاف و جُلُوف: سر جدا کیا ہوا دھڑ۔ — من الغنم: مذبوحہ بکری جس کی کھال اتاری گئی ہو اور آنتیں نکال لی گئی ہوں نیز سری اور پائے جدا کر دیئے گئے ہوں۔ برتن، ظرف، روٹی کی کور، احمق۔ الجَلِیف مؤنث جَلِیفَة جمع جَلائف و جُلُف: کھرچا ہوا، قطع کیا ہوا، ٹکڑا کاٹا ہوا، جڑ سے اکھاڑا ہوا۔ الجُلْفَة: چمڑے وغیرہ کی چھیلن یا تراشہ۔ الجِلْفَة جمع جِلَف: خشک روٹی کا ٹکڑا۔ — و الجُلْفَة من القلم: قلم کا تراشا ہوا حصہ، زبان قلم۔ الجُلاف: مٹی، کیچڑ۔

۲۔ جَلَفَ ـُـ جَلْفًا ہ الدھرُ: زمانہ کا کسی کو مالی طور پر تباہ کر دینا۔ جُلِفَ فی مالِہِ جُلْفَةً: کے مال کی کوئی چیز جاتی رہنا۔ جَلَّفَ الویلُ اموالَھم: سے مالوں کو مصیبت کا تباہ کر دینا، نابود کر دینا۔ اِجتَلَفَتْہُ الدھرُ: زمانہ کا کسی کے مال کو نابود کر دینا۔ الجَلِیف مؤنث: جَلِیفَة جمع جَلائف و جُلُف و جُلُف: کہا جاتا ہے: اصابتھم جلیفةٌ عظیمةٌ: ان کو سخت قحط سالی نے کنگال کر دیا۔ المُجَلَّف: اطراف سے چھانٹا ہوا، چیز کا کچھ حصہ جو باقی ہو۔ الجَلائف: طغیانیاں، کئی سیلاب۔

۳۔ جَلِفَ ـَـ جَلَفًا و جَلافَةً: اجڈ ہونا، اکھڑ ہونا۔ الجِلْف ج اجلاف و جُلُوف: اجڈ، اکھڑ۔ مؤنث جَلِیفَة جمع جَلائف و جُلُف: اجڈ، اکھڑ، ظالم۔

۴۔ تَجَلَّفَ: دبلا ہونا، کمزور ہونا۔

۵۔ جَلْفَطَ و جَلْفَظَ السفینةَ: کشتی کی درزیں بند کرنا، عوام اسے قَلْفَط کہتے ہیں۔ الجِلفاط و الجِلْفاظ: کشتی کی درزیں بند کرنے والا۔

○ جِلْف جمع اَجْلاف: اجڈ، گنوار، غیر مہذب۔

○ جَلْفَطَ جَلْفَظَةً ہ: کشتی کی درزیں بند کرنا۔

○ جَلْفَنَ: طرح دینا (لوہے کی چادر وغیرہ پر جست وغیرہ کا کوٹ کرنا، جست وغیرہ کی قلعی کرنا)۔ جَلْفَنَة: قلعی، ملمع سازی۔ مُجَلْفَن: جست وغیرہ کی قلعی کیا ہوا، طرح دیا ہوا۔

جلق: جَلَقَ ـِـ جَلْقًا الرأسَ: سر مونڈنا۔ — القومَ بالمنجنیق: دشمنوں پر منجنیق سے پتھر پھینکنا۔ تَجَلَّقَ: ہنستے ہوئے داڑھیں تک ظاہر کر دینا۔ الجُلاقَة: گوشت کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ جُلاقَةٌ: دبلا پتلا آدمی۔ الجُوالِق و الجَوالِق جمع جَوالِق و جَوالِیق: اون یا بالوں کی گون (فارسی لفظ)۔ جِلِّق و جِلَّق: دمشق یا اس کا غوطہ (آس پاس کے مرغزار و سبزہ زار)۔

○ جَلاقَةٌ قَرَوِیَّةٌ: دہقانی، دیہاتی، گنوار، کندہ، ناتراش، گھامڑ۔

جلك: الجَلَکی و الجَلکی (ح): بام مچھلی سے ملتی جلتی مچھلی (عجمی لفظ)۔

جلم: ۱۔ جَلَمَ ـِـ جَلْمًا و اِجتَلَمَ ہ: کو کاٹنا۔ — الصوفَ: اون کترنا۔ الجَلَم و الجَلَمان (تثنیہ کے لفظ سے): اون کترنے کی قینچی۔ آپ الجلمان پر تثنیہ کا اعراب بھی لگا سکتے ہیں اور مفرد کا بھی۔ شریتُ الجَلَمَین او الجَلَمان: میں نے اون کترنے کی قینچی خریدی۔ الجَلَم: ہلال (ح): ایک شکاری پرندہ۔ اسے البوبو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کنیت ابو ریاح ہے۔ — جمع جِلام: بکرا، بکری کا بچہ۔ الجُلامة: کتری ہوئی اون۔ الجَیْلَم: چودھویں رات کا چاند۔

۲۔ جَلَمَ ـِـ جَلْمًا و اِجتَلَمَ الجَزُورَ: ذبح شدہ اونٹ کی ہڈیوں پر سے گوشت اتارنا۔ الجَلْمَة و الجُلْمَة و الجَلَمَة: پوری چیز، سب کی سب۔ آپ کہتے ہیں: اخذتُ الشیءَ بجَلْمَتِہِ: میں نے پوری چیز لے لی۔ ھذہ جَلْمَةُ الجَزُورِ: یہ مذبوح اونٹ کا سارا گوشت ہے۔

۳۔ الجَلْمَد جمع جَلامِد و الجُلْمُود جمع جَلامِید: پتھر کی چٹان (کہا جاتا ہے: رجلٌ جَلْمَدٌ: سخت مضبوط آدمی۔ ارضٌ جَلْمَدَةٌ: پتھریلی، کنکریلی زمین، اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جو کنجوس مشہور ہو: رشح او بَضَّ جَلْمَدُہ: اس نے کچھ تو دیا)۔ اونٹوں کا بڑا گلہ۔

۴۔ جَلْمَقَ القوسَ: کمان پر تانت چڑھانا۔ الجِلْماق: وہ پٹھا جس سے تانت بناتے ہیں۔

○ جَلَمَ ـِـ جَلْمًا ہ: کو کترنا، تراشنا، کاٹنا، مونڈنا۔ جَلَم جمع اَجلام: کترنی، قینچی۔ ابو جَلَمبُو: کیکڑے کی ایک قسم۔ تَجَلْمَدَ: پتھر بن جانا، پتھر میں تبدیل ہو جانا۔ جَلْمَد جمع جَلامِد و جُلْمُود جمع جَلامِید: چٹان۔

جلن: ۱۔ الجُلَّنار: گل انار۔ (فارسی لفظ)۔

۲۔ الجُلَنْجَبِین: گل قند (فارسی لفظ)۔

جله: ۱۔ جَلَہَ ـَـ جَلْھًا الشیءَ: کو کھولنا، دور کرنا۔ — المرءَ: کو باز رکھنا۔ العمامةَ: پگڑی کو پیشانی سے اونچا کرنا۔ جَلِہَ جَلَھًا: سر کے اگلے حصہ کے بالوں کا اڑ جانا صفت: اَجْلَہ۔ الجَلْھَة جمع جِلاہ من الوادی: وادی کا کنارہ، وادی کے سامنے والی جانب۔ بیتٌ مَجْلُوہٌ: مکان جس میں نہ دروازہ ہو نہ کوئی روک اور پردہ۔

۲۔ الجَلاہِق: مٹی کا غلہ یا سیسے کی گولی (فارسی لفظ)۔

جلا: ۱۔ جَلا ـُـ جَلاءً عن بلدہ و منہ: اپنے شہر سے نکلنا۔ — الرجلَ عن بلدہ: کو اس کے شہر یا ملک سے نکالنا، شہر بدر کرنا، ملک بدر کرنا، جلا وطن کرنا۔ أَجْلَی عن بلدہ: اپنے شہر سے نکلنا۔ — ہ عن بلدہ: کو اس کے شہر یا ملک سے نکالنا، کو شہر بدر کرنا، ملک بدر کرنا۔ — الرجلُ منزلَہُ: خوف کے باعث اپنے گھر کو چھوڑ دینا۔ اِجْلَوْلَی اِجْلِیلاءً الرجلُ: ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر جانا۔ الجَالِیَة جمع جَوالٍ: جالی کا مؤنث، غیر ملکی و اجنبی لوگ جو اپنے وطن سے ہجرت کر کے کسی اور ملک میں آباد ہو گئے ہوں۔ ذمی لوگ، جزیہ دینے والے۔

۲۔ جَلا ـُـ جَلْوًا و جَلاءً الامرَ: کسی امر کو واضح کرنا، ظاہر و آشکارا کرنا۔ — عنہُ الھمَّ: کا غم دور کرنا، زائل کرنا۔ — السیفَ: تلوار کو صیقل کرنا۔ جَلا جَلاءً: ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ جَلَّی فلانًا و عن فلانٍ الامرَ: کی مصیبت وغیرہ کو رفع کرنا۔ — عن ضمیرہ: ما فی الضمیر کو ظاہر کرنا، دل کی بات کی ترجمانی کرنا۔ جالَی فلانًا بالأمر: کے سامنے کوئی بات ظاہر کرنا، کھلم کھلا کرنا۔ أَجْلَی القومُ عن القتیل: لوگوں کا مقتول کو چھوڑ بھاگنا۔ — اللہُ الھمومَ عنہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کے غم دور کرنا۔ تَجَلَّی تَجَلِّیًا الشیءُ: کا اچھی طرح ظاہر ہونا۔ تَجالَی القومُ: ہر ایک کا حال دوسرے پر کھل جانا۔ اِنْجَلَی: ظاہر ہونا۔ آپ کہتے ہیں: انجلی الھمُّ عن قلبی: میرے دل سے غم دور ہو گیا۔ اِجْتَلَی العمامةَ: پگڑی کو اپنی پیشانی سے اونچا کرنا اٹھانا۔ اِسْتَجْلَی الشیءَ: کو ظاہر کرنے کو کہنا۔ الجَلا: واضح ہونا۔ ابنُ جَلا: واضح امر والا، صبح، چاند۔ الجَلاءُ (مص): واضح معاملہ۔ مجازاً کہا جاتا ہے: اقمتُ جلاءَ یَوْمِی: میں نے پورے دن قیام کیا۔ الجَلِی مؤنث جَلِیَّة: واضح، صیقل شدہ۔ جَلِیَّةُ الامرِ: معاملہ کی منکشف شدہ حقیقت، یقینی خبر۔ الأَجْلَی مؤنث جَلْواء: روشن، واضح، ابن أجلی: صبح۔

۳۔ جَلا ـُـ جَلْوًا و جَلاءً النحلَ: شہد نکالنے کے لئے دھواں کر کے شہد کی مکھیوں کو بھگانا۔ اِجْتَلَی النحلَ: شہد نکالنے کے لئے دھواں کرنا۔

۴۔ جَلاَ ـجَلْوًا و جَلاَءً البَصَرَ بالکحل: سرمہ سے آنکھ کی بینائی کو روشن کرنا۔ الجَلاَ: سرمہ۔ الجلاء: سرمہ۔

۵۔ جَلاَ ـجَلاَءً الشیءُ: بلند ہونا۔ تَجَلّی تَجَلِّیًا المکانَ: کسی جگہ پر چڑھنا۔ ـــ الشیءَ: کسی چیز کو گردن بلند کر کے دیکھنا۔

۶۔ جَلاَ ـجَلْوَةً (بتثلیث الجیم) و جَلاَءً و اِجْتَلَی العروسَ علی زَوْجِها: دلہن کا بناؤ سنگھار کر کے خاوند کے سامنے پیش کرنا۔ جَلاَ ـُ و جَلّی الزوجُ عروسَهُ هدیةً: شب زفاف میں خاوند کا اپنی دلہن کو ہدیہ دینا۔ اِسْتَجْلَتِ العروسُ: دلہن کا آراستہ ہو کر، بناؤ سنگھار کر کے خاوند کے سامنے جانا۔ الجِلْوَة: شب زفاف شوہر کی طرف سے اپنی دلہن کو دیا ہوا تحفہ۔

۷۔ جَلِیَ ـجَلًی: کے سر کے اگلے حصہ کے بالوں کا اُڑ جانا۔ صفت: اَجْلَی مونث جَلْوَاء۔ کہا جاتا ہے: جَبْهَةٌ جَلْوَاء: چوڑی پیشانی۔ الجَلاَ: سر کے بالوں کے گرنے کی ابتداء۔ المَجْلَی جمع مَجَالٍ: سر کا اگلا حصہ۔ الأَجْلَی مونث جَلْوَاء: خوبصورت چہرے والا، وہ شخص جس کے سر کے اگلے حصہ سے بال اڑ گئے ہوں۔ آپ کہتے ہیں: فعلتُهُ من أَجْلاَكَ: میں نے یہ کام تمہاری وجہ سے کیا۔

۸۔ جَلّی بنظرِہ: نظر ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: جَلَّی البازی: باز نے سر اونچا کر کے شکار کو دیکھا۔ اِجْتَلَی الشیءَ: کو دیکھنا۔ عینٌ جَلِيَّةٌ: دیدہ بینا۔ المَجْلُوّ: جس کی طرف دیکھا جائے۔

۹۔ اِجلاَتِین (ل): جانوروں کی ہڈیوں اور نسوں سے نکلنے والا ایک چیپ دار مادہ (gelatine)۔

○ جَلاَ ـجَلْوًا ہ: کو صاف کرنا، صیقل کرنا، (منظر) کو واضح کرنا، کو صاف کرنا، ترتیب یا سلیقہ سے لگانا؛ پر روشنی ڈالنا؛ کو دکھانا، ظاہر کرنا، کا انکشاف کرنا، کو بے نقاب کرنا۔ ـــ ہ/ہ عن: کو سے ہٹانا، نکال دینا، بے دخل کرنا۔ ـــ فی: میں چمکنا، نمایاں ہونا، ممتاز ہونا، ذہین، فطین یا طباع ہونا۔ ـــ: صاف، ظاہر، بدیہی یا بین ہونا یا ہو جانا، آشکار ہونا۔ ـــ عن: کسی جگہ سے باہر جانا، سے چلے جانا، رخصت ہونا، کو چھوڑ جانا، کو چھوڑ آنا، خالی کر آنا، سے نکل آنا، کو چھوڑ دینا۔ جَلَّی ـجَلِيًّا ہ: کو صیقل کرنا، پالش کرنا، کو جلا دینا۔ جَلَّی ہ یا عن: کا انکشاف کرنا، کو دکھانا، ظاہر کرنا، افشا کرنا منظر عام پر لانا۔ ـــ ہ/ہ: کو دکھانا، کا نمونہ ہونا، کی نمائندگی کرنا، کا نمائندہ ہونا، کا کردار ادا کرنا۔ أَجْلَی ہ/ہ: کو ہٹانا، نکالنا، ہانک لیجانا، لیجانا، نکال دینا، بے دخل کرنا۔ ـــ ہ عن: کو سے نکال لانا۔ ـــ عنٍ: سے نقل مکانی کرنا، سے چلے جانا، کو چھوڑ دینا۔ تَجَلّی: واضح ہونا، صاف ہونا، ظاہر ہونا، آشکار ہو جانا، دکھنا، دکھائی دینا، منکشف ہونا، معلوم ہونا، پتہ چلنا، آشکار ہونا، کے آثار ظاہر ہونا، کا اظہار ہونا، اپنا اظہار کرنا، خود کو ظاہر کرنا۔ اِنْجَلَی: صاف اور واضح ہونا، صیقل ہونا، جلا پانا، ہٹنا، بے دخل ہونا، نکلنا۔ ـــ عن: سے نقل مکانی کرنا، منتقل ہو جانا، کسی جگہ کو خالی کر دینا۔ ـــ: (بحران، مشکل وغیرہ) گذر جانا، دور ہونا، زائل ہونا، رفع ہونا، کھو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، آشکار ہونا، بے نقاب ہوا (دلہن کا) بے نقاب ہونا، واضح، ظاہر، صاف یا آشکار ہو جانا، صاف ہو جانا، (بادلوں کا) چھٹ جانا اور کسی چیز کو دکھانا، ظاہر کرنا، کا مرادف ہونا، کا معنی یہ ہونا کہ، پر انجام پذیر ہونا۔ مایَنْجَلِی عنه الامرُ: معاملہ کا نتیجہ، اس کا نتیجہ۔ اِجْتَلَی ہ: کو ظاہر کرنا، دکھانا، افشا کرنا، کو منظر عام پر لانا، کو بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کی طرف دیکھنا۔ اِسْتَجْلَی ہ: کو واضح کرنے کی کوشش کرنا، کی وضاحت کرنا، کو ترتیب یا سلیقے سے لگانا، پر روشنی ڈالنا، کو فاش کر دینا، کو بڑی جستجو سے معلوم کر کے لوگوں کو پیش کرنا، کو ظاہر کرنا، کو معلوم کرنا، دریافت کرنا، کا پتہ لگانا، کو ظاہر کرنا، کو معلوم کرنا، دریافت کرنا، کا پتہ لگانا، کو دریافت کرنا، کا انکشاف کرنا۔ ابنُ جَلا: مشہور معروف شخص، مشہور شخصیت۔ جَلِيّ: صاف، واضح، ظاہر، بدیہی، بیّن، آشکار، نمایاں۔ جَلِيًّا: ظاہر ہے کہ، صاف طور پر۔ جَلِيَّة جمع جَلاَيَا: یقینی چیز، واضح حقیقت۔ جَلِيَّةُ الأمر: معاملہ کی حقیقی حالت کیفیت۔ اَجْلَی: واضح تر، زیادہ صاف، زیادہ ظاہر، زیادہ بیّن، صریح۔ جِلْوَة: دلہن کی نقاب کشائی۔ لَيْلَةُ الجلوَة: شادی کی رات۔ جَلاَء: توضیح، وضاحت، شستگی، صفائی، سادگی، صراحت، رخصت، روانگی، رحلت۔ ـــ عن: سے ہجرت، نقل مکانی، ترک وطن، جلا وطنی، دوسرے ملک میں منتقلی، انخلاء۔ بجَلاَءٍ: واضح طور پر، صریحاً۔ جَلَیَان: تصور، انکشاف، وحی، الہام، بالخصوص وہ جو یوحنا کو جزیرہ پتموس میں ہوا۔ مَجَالٍ (مَجْلًى کی جمع): تجلیات، ظہور، انکشافات۔ تَجْلِيَةُ الاِلٰهيَة: ربانی کشف۔ تَجَلٍّ: وحی، الہام، انکشاف، اظہار، مظاہرہ، صاف اظہار، واضح بات، حضرت مسیح کی معجزانہ تبدیل ہیئت۔ عید التَجَلِّی: حضرت مسیح کی معجزانہ تبدیلی ہیئت کا تہوار۔ اجتلاء: غور و فکر، دھیان، تصور، استغراق، مراقبہ۔ استجلاء: وضاحت، توضیح۔ جَالِيَة جمع جالیات و جوالٍ: غیر ملکیوں کا علاقہ، آبادی، تارکین وطن کی آبادی۔ المُجَلِّی: (دوڑ میں) جیتنے والا۔ مُتَجَلٍّ: واضح، بیّن، ظاہر، بدیہی، صاف، آشکار۔

○ جَلَون جمع جلونات: گیلن (gallon)۔

○ مُجَلْوَن: طرح دیا ہوا، جس پر جست وغیرہ کی قلعی کی گئی ہو، ملمع شدہ۔

○ جِلْيُوتِين: آدمیوں کے سر قلم کرنے کی مشین guillotine۔

○ ج م: جنیہ مصری (مصری پونڈ) کا مخفف۔

جلی: ۱۔ جَلَی ـجَلْيًا السیفَ: تلوار کو صیقل کرنا۔ جَلَّی الامرَ: کسی امر کو ظاہر کرنا۔ الجِلْی: چھت کا روشن دان۔ الجِلِّیَان: کشف و اظہار۔ الجِلِّیَان: یوحنا کے خواب سے متعلق تورات کا ایک جزء۔

۲۔ جَلَّی الفرسُ: گھوڑے کا میدان میں آگے نکل جانا۔ المُجَلِّی: میدان میں آگے رہنے والا۔

جمّ: ۱۔ جَمَّ ـجَمًّا و جُمُومًا الشیءُ: چیز کا بہت ہونا، بکثرت ہونا۔ ـــ جُمُومًا العظمُ: ہڈی کا بہت پرگوشت ہونا۔ جَمَّمَ و تَجَمَّمَ النبتُ: روئیدگی کا بکثرت بڑھ کر زمین کو ڈھک لینا۔ صفت جَمِیم جمع اَجِمَّاء۔ اِسْتَجَمَّت الارضُ: زمین کا نباتات اگانا۔ الجَمُّ (مص): بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے: جَاؤُوا جَمًّا غَفِيرًا و جَمَّ الغفیرِ و جَمَّ الغفیرة و الجمَّ الغفیرَ: شریف و رذیل سب ہی آئے اور بڑی تعداد میں آئے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ الجَمَم: کثرت، بڑی تعداد۔ الجُمَّة: سر کے بالوں کی کثرت۔ جمع جُمَم: ـــ و الجَمَّة: چیز کا بیشتر اور بہت سا حصہ۔ کہا جاتا ہے: جَاؤُوا فی جَمَّةٍ کثیرة: وہ بڑی تعداد میں آئے۔ الجَمَّاء: بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے: إمرأةٌ جَمَّاءُ العظام: بہت موٹی عورت، پرگوشت عورت۔ کہتے ہیں: جَاؤُوا جَمَّاءَ الغفیر و جَمَّاءَ الغفیرةِ و الجَمَّاءَ الغفیرةَ و جَمَّاءَ غفیرةً و بِجَمّاءِ الغفیر الخ: وہ سب کے سب آئے۔ الجَمِیم: بہت روئیدگی، جو پورا طویل نہ ہوا ہو۔ الجُمَّانِیّ و المُجَمَّم: وہ شخص جس کے سر پر بہت بال ہوں۔

۲۔ جَمَّ ـجُمُومًا الماءُ: پانی کا بڑی مقدار میں جمع ہونا۔ ـــ ت البئرُ: کنویں کا زیادہ پانی والا ہونا۔ صفت جَمُوم۔ ـــ جَمًّا و جِمَامًا و جُمَامًا و جَمَامًا الماءَ: پانی کو جمع ہونے دینا۔ اَجَمَّ الماءَ: پانی کو جمع ہونے دینا۔ اِسْتَجَمَّ الماءُ: بڑی مقدار میں

پانی کا جمع ہونا۔ البئرَ: کنویں کو پانی سے بھر جانے دینا۔ الجَمّ جمع جِمَام و جُمُوم من الماء: پانی کا بڑا حصہ۔ الجَمَّة جمع جِمَام: بہت پانی والا کنواں۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: اِستَقِ من جمة البئر: زیادہ پانی والے کنویں سے پانی پی لو۔ المَجَمّ و الجَمَم: سینہ۔ کہا جاتا ہے: هو رحب الجَمَم: وہ فراخ سینہ و فراخ دل ہے۔

۳۔ جَمَّ ـُ جَمًّا و جِمامًا و جُمامًا و جَمامًا الکیلَ: پیمانہ کو چوٹی تک بھرنا۔ المکیالَ: پیمانہ کو چوٹی تک بھرنا۔ جَمَّمَ المِکیَالَ: پیمانہ کو چوٹی تک بھرنا۔ الجِمَام (بتثلیث المیم) و الجَمَم: پیمانہ کے لبوں سے اوپر کا ماپ۔ کہا جاتا ہے: جِمامُ القدحِ ماءً: پانی سے بھرا پیالہ۔ الجَمَّام و الجَمَّان: لبالب بھرا ہوا پیمانہ۔

۴۔ جَمَّ ـُ جَمًّا و جَمامًا الفرسُ: گھوڑے کا کوتل چھوڑا ہونا۔ ـــ ـُ جُمُومًا القومُ: لوگوں کا آرام کرنا۔ اَجَمَّ الفرسَ: گھوڑے کو کوتل چھوڑ دینا، اس پر سواری نہ کرنا۔ ـــ الفؤادَ: دل کو آرام کرنے دینا۔ کہا جاتا ہے: اَجْمِمْ نفسك یوما او یومین: ایک دو دن جان کو آرام دو اور چلو پھرو نہیں۔ ـــــ و اُجِمَّ الفرسُ: گھوڑے کا کوتل چھوڑا جانا۔ اِستَجَمَّ اِستِجمامًا: آرام کرنا۔ کہا جاتا ہے: انی لاستجمّ قلبی بشیء من اللهو: میں اپنے دل کو کھیل کود سے بہلاؤں گا۔

۵۔ جَمَّ ـُ جُمُومًا الفراقُ: فراق و جدائی کا قریب آنا۔ اَجَمَّ الفراقُ: جدائی کا وقت قریب آنا۔ ـــ الامرُ: حاضر ہونا یا قریب آنا۔

۶۔ جَمَّ ـَ جَمًّا الکبشُ: مینڈھے کا بے سینگ ہونا۔ الأجَمّ مونث جَمَّاء جمع جُمّ: بے سینگ والا مینڈھا، بغیر نیزہ کے لڑنے والا۔ الحصن الأجَمّ: بلندی نہ رکھنے والا قلعہ۔ ارضٌ جَمَّاء: ہموار زمین۔

۷۔ جَمْجَمَ جَمْجَمَةً و تَجَمْجَمَ الکلامَ: بات کو صاف نہ کہنا۔ کہا جاتا ہے: تَجَمْجَمَ عن الأمر: اس نے کام کا بیڑہ نہ اٹھایا۔ جَمْجَمَ شیئًا فی صدره: اس نے بات کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا اور اس کا پتہ نہ لگنے دیا۔ الجُمْجُمَة جمع ـ جم (ع ا): کھوپڑی، لکڑی کا پیالہ، زمین شور میں کھدا ہوا کنواں۔

○ جَمَّ ـِ جَمًّا: حواس بجا کرنا، اپنے خیالات مجتمع کرنا، ہمہ تن متوجہ ہونا، آرام کرنا۔ جَمَّمَ و تَجَمَّمَ: پودوں کا بکثرت اگنا، بڑھنا۔ اِستَجَمَّ: حواس بجا کرنا، اپنے خیالات مجتمع کرنا، ہمہ تن متوجہ ہونا، آرام کرنا۔ ـــ من: سے تفریح چاہنا۔ ـــ: زمین کا فراوان روئیدگی سے ڈھکا ہوا ہونا۔ جَمّ: کثیر، بہت، وافر، زیادہ، فراواں، کثیر، بہت، بڑی حد تک، کافی مقدار، بہت کچھ، بہت سا، کئی، بہت سے، بہتیرے، متعدد، بڑی تعداد میں، افراط، گوناگوں، بوقلموں، طرح طرح کا، انواع و اقسام کے، مختلف اصناف کے، جمگھٹا، بھیڑ، جم غفیر، ہجوم، انبوہ، کثرت، اژدہام، عوام الناس، خلقت، لوگوں کا گروہ، لوگوں کی جماعت۔ جَمّ الاثر: موثر، کاری، مجرب، تیر بہدف، کارگر، یقینی اثر کرنے والا۔ احبه حُبًّا جَمًّا: سے ضرورت سے زیادہ محبت کرنے والا ہونا۔ فوائدُ جَمَّةٌ: متعدد منفعتیں، وسیع فوائد۔ جم غفیر: بڑا ہجوم، بڑا انبوہ، بڑا اژدہام، بڑا جمگھٹا، مجمع، بھیڑ۔ جَمَام: آرام، تفریح، بہلاوا، نئی طاقت کا اجتماع۔ مَجَمّ: وہ جگہ جہاں کوئی چیز جمع ہو یا باہم ہے۔ مَجَمّ هذا الرای و مُستَجمَعُهُ: یہ رائے جس وزن کی ہے۔ اس رائے کا مطلب یہ ہے کہ۔ تجمیم: خواتین کے ترشے ہوئے بال۔ اِستِجمام: خیالات کا مجتمع ہونا، پوری توجہ، ارتکاز، دھیان، التفات، متوجہ تعظیم، آرام، تفریح۔

○ جُمْبَرِی و جَمَرِی: ایک قسم کا جھینگا۔

○ جَمْجَمَ جَمْجَمَةً الکلامَ و تَجَمْجَمَ: ٹھہر ٹھہر کر صاف نہ بولنا، ہکلا کر کہنا، رک رک کر کہنا، خراب طریقے سے اظہار مافی الضمیر کرنا، بے ربط گفتگو کرنا، منہ ہی منہ میں کچھ کہنا۔ جُمْجُمَة جمع جَمَاجِم: کھوپڑی، کاسہ سر۔ جُمْجُمِیّ: کھوپڑی کا (یا کھوپڑی سے متعلق)۔

جمی: جَمِیَ ـَ جَمًا علیه: پر غصہ ہونا۔ تَجَمَّأَ فی ثیابه: اپنے کپڑوں میں لپٹنا۔ ـــ القومُ: قوم کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الجَمأ و الجَمَاء: شخص۔

جمح: جَمَحَ ـَ جَمْحًا و جِمَاحًا و جُمُوحًا الفرسُ: گھوڑے کا منہ زوری کرنا، سوار کے قابو سے باہر نکلنا۔ صفت: جَامِح (مذکر و مونث دونوں کے لئے) جمع جَوَامِح: اس سے ہے: جَمَحَتِ المرأةُ زوجها: عورت کا اپنے خاوند کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ وغیرہ کے گھر چلے جانا، خودسر ہونا۔ جمح الرجلُ: آدمی کا خودسر ہونا، خودرائے ہونا۔ صفت: جَمُوح۔ کہا جاتا ہے: جمحت المفازةُ بالقوم: بیابان نے قوم کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا۔ جمح بفلانٍ مرادُهُ: فلاں شخص اپنی مراد کو نہ پہنچا۔ الجُمَّاح جمع جَمَامِح و جَمَامِیح: لڑائی میں شکست کھا کر بھاگ جانے والے بے پھل والا نیزہ۔

○ جَمَحَ ـَ جُمْحًا و جِمَاحًا و جُمُوحًا: (گھوڑے کا) بھاگ نکلنا، فرار ہو جانا، سرکش ہونا، آسانی سے قابو میں نہ آنا، اودھم مچانا، نافرمان ہونا، گستاخ ہونا، متلون مزاج ہونا، من موجیا ہونا، لہری ہونا، موجی ہونا، خبطی ہونا، (عورت کا) اپنے خاوند کو چھوڑ کر چلے جانا، گھر سے بھاگ جانا۔ جِمَاح: سرکشی، نافرمانی، حکم عدولی، خودسری، خودرائی، ضد۔ جُمُوح: بمعنی جِماح۔ جَمُوح: خودسر، سرکش، گستاخ، نافرمان، آسانی سے قابو میں نہ آنے والا، قابو میں نہ رہنے والا۔ جَامِح: خودسر، سرکش، گستاخ، نافرمان، آسانی سے قابو میں نہ آنے والا، نہ دبنے والا، ڈٹ جانے والا، جو سدھانے کے قابل نہ ہو۔

جمخ: جَمَخَ ـَ جَمْخًا: تکبر کرنا۔ صفت: جَامِخ جمع جُمَّخ و جُمُوخ و جِمِّیخ۔ جَامَخَهُ: سے مقابلہ پر فخر کرنا۔

جمد: ۱۔ جَمَدَ ـُ جَمْدًا و جُمُودًا الماءُ: پانی کا جم جانا۔ ـــ الدمُ: خون کا خشک ہو جانا۔ جَمَّدَ تَجْمِیدًا الاموالَ المنقولةَ (ت): سرمایہ منجمد کرنا، رقم نکلوانے سے روک دینے کا حکم دینا۔ جَمَّدَ و اَجْمَدَ ہ: کو جمانا۔ الجَمَد و الجَمْد: جما ہوا پانی، برف۔ ـــ و الجُمُد و الجُمْد: سخت و بلند زمین۔ الجَمَاد جمع جُمُد: زمین۔ ـــ جمع جَمَادات و الجَامِد جمع جَوَامِد: نہ بڑھنے پھولنے والی اور غیر جاندار شئے، جیسے پتھر۔ الفعل الجامد: غیر متصرف فعل جس کی گردان نہیں ہوتی: جیسے لیسَ و عسَی۔

۲۔ جَمَدَ ـُ عینه: کی آنکھ کے آنسوؤں کا بند ہونا۔ صفت: جَمَادٌ و جَمُودٌ و جمیدُ العین مونث جَمُود جُمَادَی: وہ (آنکھ) جو آنسو نہ ٹپکائے۔ کہا جاتا ہے: عینٌ جُمَادَی: آنسو نہ ٹپکانے والی آنکھ۔ الجَمَاد جمع جُمُد: کہا جاتا ہے: الناقةُ الجَمَاد: سست رفتار اونٹنی، اونٹنی جو دودھ نہ دے۔ سَنَةٌ جَمَاد: وہ سال جس میں بارش نہ ہو۔ ارضٌ جَمَاد: زمین جس پر بارش نہ برسی ہو۔

۳۔ جَمَدَ ـُ جُمُودًا و جَمُدَ ـُ یدُہ: کنجوس ہونا۔ اَجْمَد: کنجوس اور بے خیر ہونا، بے بھلائی ہونا۔ الجَمَاد جمع جُمُد: کہا جاتا ہے: فلانٌ جمادُ الکفِّ: فلاں شخص کنجوس ہے۔ جَمَادِ له (کسرہ پر مبنی): بخیل کے حق میں بددعا کہ خدا کرے وہ ہمیشہ اسی حال میں رہے۔

۴۔ جَمَدَ ـُ جُمُوْدًا و جَمْداً حقُّه علی فلان: کا حق کسی پر واجب ہونا۔ اَجْمَدَ حَقَّهُ علیه: پر اپنا حق واجب ٹھہرانا، اپنے حق کو کسی کی مرضی کے خلاف قبول کروانا۔

۵۔ أَجْمَدَ: ماہ جمادی میں داخل ہونا۔ جُمَادَی جمع جُمَادَیات الاولی و الآخرۃ: قمری سال کا پانچواں اور چھٹا مہینہ۔

۶۔ جَامَدَ مُجَامَدَۃً ہ: کا پڑوسی ہونا، پاس پاس ہونا، قریب قریب ہونا، کہا جاتا ہے: هو مُجَامِدِی: وہ میرا پڑوسی ہے، گھر سے گھر ملا ہوا ہے۔

○ جَمَدَ ـُ و جَمُدَ ـَ جَمْداً و جُمُوداً: جمنا، سخت ہونا، منجمد ہونا، اکڑ جانا، اکڑا ہونا، ٹھوس ہونا یا ہو جانا، مضبوط ہونا، (خون کا) جمنا، منجمد ہونا، بستہ ہونا، گاڑھا ہونا، (اپنی سوچ میں) بے لوچ ہونا، بلا رو رعایت ہونا، غیر اثر پذیر یا غیر تغیر پذیر ہونا، کسی بہتی چیز کا رک جانا، کھڑا ہونا، بے حس ہونا، بے پرواہ ہونا، مردہ ہونا، کاہل ہونا، ڈھیلا ہونا، کند ہونا، دلچسپی نہ لینا۔ جمدت نفسُه علی: کے حق میں نہ حامی نہ مخالف ہونا، نہ ادھر نہ ادھر ہونا، کو برداشت کرنا، چپ چاپ مان لینا، پر رضامند ہونا، متفق ہونا۔ جمدت يدُه: کنجوس ہونا، بخیل ہونا، کمینہ ہونا۔ جَمَّدَ ہ: کو جمانا، منجمد کرنا، برف کر لینا، ٹھوس بنانا، سخت کرنا، (دہی) جمانا، (خون) منجمد کرنا، (سرمایہ) منجمد کرنا۔ تَجَمَّدَ: جمنا، منجمد ہونا، برف بن جانا، برف سے بھر جانا، رک جانا یا سخت ہو جانا، یخ بستہ ہو جانا، منجمد ہو کر مر جانا، ٹھوس ہونا، سخت ہونا، (سیمنٹ کا) سخت ہو جانا، سیٹ ہو جانا، (خون کا) جمنا، خشک ہونا۔ اِنْجَمَدَ: برف سے بھر جانا، رک جانا یا سخت ہو جانا، یخ بستہ ہو جانا، برف بن جانا، جمنا، منجمد ہونا۔ جَمْد: جمنا، منجمد ہونا، ٹھوس ہونا، جماد، انجماد۔ دَرَجَةُ الجَمْد: درجہ انجماد، نقطہ انجماد۔ جَمَد: برف۔ جَمَاد جمع جَمَادات: ٹھوس شئے، بے جان غیر نامیاتی جسم، معدنی چیز، معدنیات، بے جان، مردہ جسم، بے جان وجود یا ہستی۔ جُمُود: جمی ہوئی حالت، ٹھوس اور مضبوط حالت، گاڑھا پن، گھنا پن، سنگینی، مضبوطی، استواری، سختی، درشتی، کڑا پن، کرختگی، درشتی، ٹھوس مادی حالت، بے حسی، بے لوچ ہونا، غیر اثر پذیری، تعطل، رک جانا، ٹھہراؤ، سستی، کاہلی، (مادے کا) جمود، بے عملی، بے ہمتی، کم ہمتی، کٹھور پن، جمود، خاموشی سے برداشت، بے پروائی، بے رخی، بے اعتنائی۔ جُمُودۃ: ٹھوس پن، سختی۔ تجمید: جمانا، ٹھوس بنانا، جماد، انجماد، استحکام، پوختگی، الحاق، بنیاد کو مضبوط بنانا۔ تجمید الاموال: سرمایہ کو منجمد کر دینا۔ جَامِد: سخت، ٹھوس، بے لوچ، بے حرکت، ساکن، بے حس و حرکت، بے جان، غیر نامی، غیر نامیاتی، خشک، بے لطف (کتاب وغیرہ)، ترقی یا نئے خیال یا چیز سے غیر اثر پذیر، جمود کا شکار، جس پر جمود طاری ہو، احساس سے عاری، غیر معمولی حد تک قدامت پسند، یا اعتدال پسند یا انقلاب کا مخالف جمع جَوَامِد: بے جان چیزیں، غیر نامیاتی مادہ، معدنیات۔ مُتَجَمِّد: جما ہوا، برف، سخت سرد، برفانی، سخت، منجمد۔ مُنْجَمِد: جما ہوا، برفانی، سخت سرد، برفیلا، قطب شمالی کا یا اس کے متعلق یا اس کے قریب واقع۔ المُحِيطُ المُنْجَمِد: بحر منجمد شمالی۔

جمر: ۱۔ جَمَرَ ـِ جَمْراً القومُ علی امرٍ: قوم کو کسی معاملہ پر اکٹھا کرنا۔ ـــ و استجمر القومُ علی امرٍ: قوم کا کسی معاملہ پر جمع ہونا اور مل بیٹھنا۔ جَمَّرَ القومُ علی أمرٍ: قوم کا کسی معاملہ پر اکٹھا ہونا۔ ـــ الامرُ القومَ: کسی معاملہ کا قوم کو مل بیٹھنے کے لئے ضروری بنانا۔ ـــ ت المرأۃُ شعرَها: عورت کا چوٹی گوندھ کر پیچھے ڈالنا۔ اجمر القومُ علی امر: قوم کا کسی معاملہ پر اکٹھا ہونا۔ ـــ الامرُ القومَ: کسی معاملہ کا لوگوں کو ہم آغوش کرنا۔ ـــ ت المرأۃُ: عورت کا چوٹی گوندھ کر پیچھے ڈالنا۔ تَجَمَّرَ الجیشُ: فوج کا دشمن کی سرزمین میں گھر جانا اور لوٹ نہ سکنا۔ ـــ ت القبائلُ: قبیلوں کا اکٹھا ہونا۔ الجَمْرَۃ جمع جَمَرات و جِمَار: آپس میں مل کر ایک جان ہونے والے لوگ۔ کہا جاتا ہے: بنو فلان جَمْرَۃٌ: فلاں شخص کی اولاد اتفاق و اتحاد کے رشتہ میں جکڑی ہوئی ہے۔ الجِمَار: جماعت، اکٹھے لوگ۔ جَمَارَی و جَمَارِیٌّ (تنوین کے ساتھ اور اس کے بغیر): سب کے سب، کل کہا جاتا ہے: جاءَ القوم جَمَاری: سب کے سب لوگ آئے۔ جُمَار: کہا جاتا ہے: جاءَ القومُ جُمَاراً: وہ لوگ سب کے سب آئے۔ المُجْمِر: قوم کے اکٹھا ہونے کی جگہ۔ جَمِيرُ الشَّعَرِ: بالوں کی گندھی ہوئی چوٹی۔ ابنُ جَمِيرٍ: تیرہ و تاریک رات۔ ابنا جمير: رات اور دن۔ الجَمِيرَۃ: سر کے بالوں کی چوٹی، مینڈھی۔

۲۔ جَمَرَ ـِ جَمْراً ہ: کو چنگاری دینا۔ جَمَّرَ اللحمَ: گوشت کو انگارے پر رکھنا۔ أَجْمَرَ النارَ: آگ تیار کرنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کو دھونی دینا۔ تَجَمَّرَ بالمِجْمَرۃ: انگیٹھی سے دھونی لینا۔ اِجْتَمَرَ و اِسْتَجْمَرَ بالمجمرۃ: انگیٹھی سے دھونی لینا۔ الجَمْرَۃ جمع جَمَرات و جِمار (جَمْر کا واحد)، انگارہ۔ المِجْمَرَۃ و المِجْمَر جمع مَجَامِر: انگیٹھی۔

۳۔ جَمَّرَ النَّخْلَةَ: کھجور کے درخت کی چربی کی مانند گوند کاٹنا۔ الجُمَّار و الجَامُور: واحد جُمَّارہ و جَامُورۃ جمع جُمَّارات و جامورات: کھجور کے درخت کا گوند جو چربی کے مشابہ ہوتا ہے۔

۴۔ أَجْمَرَ: تیز چلنا۔ اسی سے ہے: أَجْمَرَ بین یدیه: وہ اسکے ساتھ تیز چلا۔

۵۔ الجَمْرَۃ جمع جَمَرات و جِمار: کنکری۔ جِمارُ الحج: منیٰ کے تین مناسک میں حجاج کی طرف سے پھینکی جانے والی کنکریاں۔ المُجْمِر و المُجْمَر من الحوافر: سخت کھر۔

۶۔ الجُمْرُك و الكُمْرك جمع جَمَارِك او كَمَارِك: دفتر محصول درآمدگی (فارسی لفظ)۔

○ جَمَّرَ ہ: (گوشت) بھوننا۔ اِجْتَمَرَ: دھونی دینا، بخورات جلانا۔ جَمْر: انگارے، دہکتا ہوا کوئلہ۔ کان علی أَحَرَّ من الجمر: خلجان میں ہونا، مخمصے میں ہونا، زبردست تشویش، امید و بیم کی حالت میں ہونا، تجسس میں مرے جانا۔ جَمْرَۃ (جمر کا واحد) دہکتا کوئلہ، جلتی ہوئی لکڑی، سلگتی چنگاری، کھٹکتی آزردگی۔ جمع جمرات: دنبل۔ الجمرۃُ الخبیثۃ: بھڑ تپ anthrax۔ جُمَّار: نخل کا گودا، مغز۔ مِجْمَرۃ جمع مَجَامِر: انگارہ دان، عودسوز، عود دان، اگر دان۔

○ جُمْرُك جمع جَمَارِك: محصول درآمد (و برآمد)، دفتر یا محکمہ محصول درآمد (و برآمد)۔ رسمُ الجمرك: بحری لگان، محصول درآمد، تانبی محصول۔ جُمْرُكی: محصول درآمد کا یا اس کے متعلق۔ اِتِّحادُ جُمْرُكيّ: اتحاد محصول درآمد۔ مُجَمْرَك: محصول دادہ۔

جمز: ۱۔ جَمَزَ ـِ جَمْزاً ہ: سے تمسخر اور ٹھٹھا کرنا۔

۲۔ جَمَزَ ـِ جَمْزاً: تیز دوڑنا، صفت۔ جَمَّاز۔ الجَمَزَی: دلکی، تیز چال۔ کہا جاتا ہے: یعدو الجَمَزَی: وہ تیز دوڑتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: رجع القَهْقَرَی: وہ پیچھے مڑا یا لوٹا۔ حمارٌ جَمَزَی: دلکی چلنے والا گدھا۔

۳۔ الجُمْزَۃ جمع جُمَز (ن): کھلی جس میں دانا ہوتا ہے۔ الجُمَّیز و الجُمَّیزی: واحد جُمَّیزۃ (ن): گولر کا درخت۔

○ جُمَّیز واحد جُمَّیزۃ مصر اور شام کا انجیر کا درخت۔

جمس: ا۔ جَمَسَ ـُ و جَمِسَ ـَ جُمُوسًا السمنُ: گھی کا جم جانا۔ الجَامِس (فا) من النبات: مرجھائی ہوئی گھاس۔ جَمِیس: خشک۔ دم جَمِیس: خشک خون۔

۲۔ الجَمَسْت: ایک قسم کا قیمتی پتھر (فارسی لفظ)۔

۳۔ الجامُوس جمع جَوَامِیس (ح): بھینس (فارسی لفظ)۔

جمش: ا۔ جَمَشَ ـُ جَمْشًا الرأسَ: سر مونڈنا اسی سے ہے: مَکَانٌ جَمِیش: روئیدگی سے خالی جگہ۔ الجَمُوشَ و الجَمِیش: بال گرنے کی مرکب دوا۔

۲۔ جَمَشَ ـُ جَمْشًا الناقةَ: انگلیوں کے پوروں سے اونٹنی کو دوہنا۔ جَمَّشَ ہ: کی چٹکی لینا، سے کھیل کھیلنا۔ الجَمْش: آہستہ آواز۔

○ جَمَشَ ـُ جَمْشًا ہ: کے بال اڑانا۔ جَمَّشَ: پیار کرنا، پیار سے ہاتھ پھیرنا، چومنا، بہت لاڈ، پیار کرنا۔

جمع: جَمَعَ ـَ جَمْعًا المُتَفَرِّقَ: منتشر اشیاء کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ کہا جاتا ہے: جُمِعَتِ الجُمُعَةُ: جمعہ کی نماز کھڑی کی گئی۔ جَمَّعَ: جمع کرنا، اکٹھا کرنا (تشدید مبالغہ کے لئے ہے)۔۔ المسلمُ: مسلمان کا جمعہ کی نماز میں شریک ہونا۔ جَامَعَ مُجَامَعَةً و جِمَاعًا ہ علی كذا: کی کسی بات پر اتفاق کرنا، موافقت کرنا۔ ۔۔۔ ھا: عورت سے ہمبستری کرنا۔ أَجْمَعَ القوم علی كذا: قوم کا کسی بات پر اتفاق کرنا۔۔۔ الامرَ و علی الأمر: کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا۔۔۔ ما كان مُتَفَرِّقًا: متفرق اور بکھری چیز کو یکجا کرنا۔ الابلَ: اونٹوں کو اکٹھے ہانکنا۔ تَجَمَّعَ القومُ: قوم کا یکجا ہونا، اکٹھا ہونا۔۔۔ الشيءُ المُتَفَرِّقُ: متفرق اور بکھری چیز کا اکٹھا ہونا، یکجا ہونا۔ اجْتَمَعَ القومُ و الشيءُ المتفرقُ: قوم اور بکھری ہوئی چیز کا یکجا و اکٹھی ہونا۔۔۔ الغلامُ: لڑکے کا جوان اور قوی ہونا، طاقت ور ہونا (عورتوں کے لئے اجتمع کا لفظ مستعمل نہیں)۔ اِنْجَمَعَ الشيءُ: چیز کے اجزاء یا افراد کا یکجا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ اِسْتَجْمَعَ القومُ: پوری قوم کا چلا جانا۔۔ لهُ الامورُ: کام کا کسی منشا کے مطابق تکمیل پانا۔۔ البقلُ: سب سبزی ترکاری کا خشک ہو جانا۔۔ الفرسُ جَرْيًا: گھوڑے کا پوری طاقت سے دوڑنا۔ الجَمْعُ (مص) جمع جُمُوع: لوگوں کی جماعت۔ یومُ الجمع: قیامت کا دن۔ جُمْع جمع أَجْمَاع: مٹھی بھر چیز۔۔۔ الكفّ: مٹھی۔ کہا جاتا ہے: ضربتهُ بِجُمْعِ كفّي: میں نے اسے مکے سے مارا۔ الجَامِع (فا) جمع جَوَامِع: جامع مسجد۔ الكلامُ الجامِع: وہ کلام جس کے الفاظ کم مگر مطلب بہت ہوں۔ الیومُ الجامِع: جمعہ کا دن۔ قِدْر جامِعٌ: دیگ۔ ابو جَامِع: دسترخوان کی کنیت۔ الجَامِعَة: جامع کی مؤنث: تعلق، طوق، یونیورسٹی، تورات کی ایک کتاب۔ قِدْرٌ جامِعَةٌ: دیگ۔ الجماع (مص): جِمَاعُ الشيء: کسی چیز کی جمع۔ کہا جاتا ہے: جِمَاعُ الخباء الأخبيةَ: خبا کی جمع اخبیة ہے۔ الخمرُ جماعُ الإثم: شراب ہر قسم کے گناہوں کو اپنے اندر جمع رکھتی ہے۔ قِدر جِمَاعٌ: دیگ۔ الجُمُعَة: اجتماع، دوستی، ہفتہ۔ جُمْعَةٌ مِن تَمْرٍ: مٹھی بھر کھجور۔۔ و الجُمُعَة جمع جُمَع و جُمُعَات: ہفتہ کا چھٹا دن۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نام اس لئے پڑا کہ مسلمانوں کے مسجد میں اکٹھے ہونے کا دن ہے۔ أَجْمَعَ مونث جَمْعاء جمع أَجْمَعُون: یہ تاکید کا ایک لفظ ہے اور ہر اس شے کی تاکید کے لئے آتا ہے جس کا افتراق حساً اور حکماً صحیح ہو۔ کہا جاتا ہے: جاءوا أَجْمَعَهُمْ و بِأَجْمَعِهِم و بِأَجْمُعِهِم: وہ سب کے سب آگئے۔ الجَمِيع: لوگوں کی جماعت، تاکید کے موقعہ پر بمعنی سب کے سب (کہا جاتا ہے: جاؤوا جميعُهم: وہ سب کے سب آگئے۔ رأيٌ جَمِيعٌ: ٹھیک اور پختہ رائے) لشکر۔ المُجْمَع من الأُمُور: متفق فیہ امر، وہ معاملہ جس پر سب آراء متفق ہوں۔ المُجْمَع من الأُمور: قطعی معاملہ۔ المَجْمَعُ جمع مَجَامِع: جمع ہونے یا اجتماع کی جگہ۔ (کہا جاتا ہے: اخذت محبتهُ بمجامع قلبي: اس کی محبت میرے دل کے ریشہ ریشہ میں پیوست ہوگئی) کلیسائی مجلس۔۔ العِلْمِيّ: اکاڈمی۔ مُجَامَعَة: ہفتہ بھر کے لئے۔ کہتے ہیں: استاجر الاجيرَ مجامعةً: اس نے مزدور کو ہفتہ وار ادائیگی پر رکھا۔ جس طرح مُشَاهَرَةً: ماہانہ ادائیگی پر کے معنی میں آتا ہے۔ ارضٌ مَجْمَعَةٌ و مُجْمِعَةٌ و مُجَمِّعَةٌ: وہ زمین جس میں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور بھٹکنے کے خوف سے ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ المَجْمُوع (مفع) جمع مَجَامِيع: وہ کتاب جس میں مختلف چیزیں جمع کی گئی ہوں جیسے اشعار و قصے وغیرہ، نحویوں کے نزدیک اس کا اطلاق جمع پر ہوتا ہے۔ الجَمِيعَة جمع جَمَائِع: اجتماع۔ الجَمَاعَة جمع جَمَاعَات: لوگوں کا گروہ، اس لفظ کا اطلاق حیوانات پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: جماعة النحل: شہد کی مکھیوں کی ٹولی۔ الإجماع: اسلامی عقیدہ پر مبنی چار اصولوں میں سے ایک اصول، ہر زمانہ میں اور ہر دینی معاملہ پر امت کے مجتہدین کا اتفاق رائے۔ المُجْتَمَع (مف): کہا جاتا ہے: رجلٌ مُجْتَمِعٌ: جوان۔ مشی مُجْتَمِعًا: وہ بدن کو سنبھالے ہوئے پوری طاقت سے تیز تیز چلا۔ المُجْتَمَع: جائے اجتماع، مجازاً: سماج، معاشرہ، سوسائٹی، جیسے المجتمع القومي: قومی سماج۔ المجتمع الانساني: انسانی معاشرہ۔ الجَمَاعِيَّة: اجتماعیت collectivism۔ الجَمَاعَات و الجماعات (ع ح): ٹیکسوں اور معاملات وغیرہ کے رجسٹر۔ الهيئة الإجتماعِيَّة: اشتراکیت (socialism)

○ جَمَعَ ـَ جَمْعًا ہ: کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، (روپیہ محصول) اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔۔۔ اجزاء کو کل میں متحد کرنا، یکجا کرنا، ملانا۔۔۔ ہ: کو جوڑنا، (ٹائپ) کے حروف کو جمانا، (کتاب) مرتب کرنا، تالیف کرنا، مدون کرنا، ترتیب دینا، (کسی چیز کی) تلخیص کرنا، کا خلاصہ کرنا، کا خلاصہ ہونا۔۔ ھم: لوگوں کو جمع کرنا، کو ایک جگہ اکٹھے کرنا۔۔۔ ہ: کا ڈھیر لگانا، انبار لگانا (تعداد یا مقدار میں) بڑھانا۔۔۔ ہ: اجلاس بلانا، منعقد کرنا، طلب کرنا۔۔ ہ: (رقم، عدد) جمع کرنا۔۔ ہ: (کالم) شامل کرنا۔۔ ہ: گرامر میں کسی لفظ کو جمع بنانا۔۔ بين: متعدد چیزوں اور شخصوں کو متحد کرنا، جوڑنا، ملانا، منسلک کرنا، یکجا کرنا۔۔۔ بين ۔۔ و: (طاقت وہمت) کو مجتمع کرنا۔۔ ہ: پر مشتمل ہونا، کی گنجائش رکھنا، کو شامل ہونا، پر محیط ہونا۔ جمع اطراف الشيء: کا خلاصہ کرنا، کی تلخیص کرنا، کا خلاصہ ہونا۔ جَمَعَ البراعةَ من أطرافِها: بہت قابل، لائق، کارکن، یا کارگزار ہونا، عمدہ کام کرنا، اعلیٰ ترین طور پر اچھا کام کرنا۔ جَمَعَ شَمْلَ القَطِيع: عوام یا گلے کو ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ يجمع الكتابُ بين صفحاتها: کتاب۔ پر مشتمل ہے۔ يُجْمَع بيتٌ على بُيُوت: بیت (گھر) کی جمع بیوت ہے۔ جَمَّعَ ہ: کا ڈھیر لگانا، انبار لگانا، کو تعداد یا مقدار میں بڑھانا، کو یکجا کرنا، اکٹھا کرنا۔۔۔ ھم: لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا۔۔۔ ہ: کے پرزے جوڑنا، کے پرزے یکجا کر کے پوری کل (مشین) بنانا۔ جَامَعَ ھا: عورت سے ہم بستری کرنا۔ أَجْمَعَ على: پر اتفاق کرنا، متفق ہونا، پر اتفاق رائے سے فیصلہ دینا، کرنا، کا پختہ ارادہ کرنا۔ أَجْمَعُوا أَمْرَهُم: انہوں نے مشترکہ فیصلہ کیا، انہوں نے سمجھوتا کیا۔ تَجَمَّعَ: اکٹھا ہونا، جمع ہونا، مجتمع ہونا، ڈھیر ہونا، انبار ہونا، بستہ ہونا، ڈلا بن جانا، گچھا سا بن جانا، منجمد ہونا، جمنا، جم جانا۔ اِجْتَمَعَ: مجتمع ہونا، اکٹھے ہونا، اکٹھے آنا، ملنا، شامل ہونا۔۔ ب: سے متحد ہونا، جڑنا۔۔ (تنظیم کمیٹی

وغیرہ) کا اکٹھا ہونا، اجتماع کرنا، اجلاس کے لئے جمع ہونا ـــــ مع / ب: کے ساتھ ہونا، اکٹھا ہونا، سے ملاقات کرنا، انٹرویو کرنا، مشورہ کرنا، بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا ـــــ علی: پر اتفاق کرنا، متفق ہونا۔ اِسْتَجْمَعَ ہ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، یکجا کرنا ـــــ قُوَاہُ: اپنی طاقت مجتمع کرنا ـــــ افکارَہُ: اپنے خیالات مجتمع کرنا۔ ہ: کا خلاصہ کرنا، کی تخلیص کرنا۔ ـــــ ہ: کا مالک ہونا، پر قابض ہونا، کو رکھنا، کو ملانا، یکجا کرنا، کو بیک وقت رکھنا، کا بیک وقت مالک ہونا۔ جَمْع: اجتماع، مجموعہ، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اتحاد، دھڑا، ایکا، تعلق، جوڑنا، ملانا، ڈھیر، انبار (حساب) جمع، اتحاد، انضمام، ادغام، جملہ اشیاء۔ بین: کی وحدت، کا اتحاد۔ جمع جُمُـــوع: اجتماع، بھیڑ، ہجوم، انبوہ، ازدحام، ٹولی، دستہ، گروہ، جھنڈ، رسالہ۔ (حساب) جمع۔ جمعُ الشَمْل: اتحاد، وحدت، دغام، انضمام، اسم الجمع: اسم جمع۔ جُمْعُ (الید): مٹھی۔ جُمْع و جُمْعُ الکفِ و جُمْعُ الید: مٹھی۔ بِجُمع یدیه: مٹھیوں سے۔ جُمُعَة جمع جُمَع و جُمُعَـــات: ہفتہ، جمعہ (کا دن) یوم الجمعہ: جمعہ۔ جـــمعة الآلام: حضرت مسیح کے مصائب کا ہفتہ۔ الجمعة العظیمة و یوم الجمعة الحزینة: گڈ فرائیڈے۔ ایسٹر سے پہلے کا جمعہ جس میں حضرت مسیح کی تصلیب منائی جاتی ہے۔ جَمْعِیّة جمع جمعیات: کلب، انجمن، سماج، معاشرہ، سوسائٹی، تنظیم، کارپوریشن، اسمبلی۔ جمعیة الأمم: انجمن اقوام۔ جمعیةُ الإسعاف: سول ایمبولنس سروس۔ جمعیة عُمُـومیّة و جمعیة عـامّة: جنرل اسمبلی، عام اجلاس، اجلاس عام۔ جمعیة تعاونیة: انجمن امداد باہمی۔ جـمعی: مجموعی، کلی، پورا، سارا، تمام، تمام کا تمام، سارا کا سارا، سب۔ جـمیع النـاس: سب لوگ، ساری نوع انسانی۔ الجـمیع: سب لوگ، ہر شخص، بھی لوگ۔ جمیعًا: بیک جسم، سب ملا کر، کل، سب کے سب، سب، پورے کا پورا، سراسر۔ أجْمَع جمع أجْمَعُون مونث جَمْعَاء جمع جُمَع: سب، سارا، تمام، جملہ، پورا، کامل، پورا کا پورا، سب کا سب، کامل، بے کم و کاست، پورا پورا۔ العالم الاسلامی اجمع: تمام اسلامی دنیا۔ الدار جمعاءَ: پورا گھر۔ بِأَجْمَعِهِ: مکمل طور پر، سب کو ملا کر، جملہ، بحیثیت، مجموعی، بالکل، پوری حد تک، کامل طور پر، کاملاً۔ جُماع: میزان، پوری رقم، مجموعہ، کل میزان۔ جُماع کَهْرَبَـائِـی: برقی مخزن، برقی ذخیرہ، مخزن برق storage battery۔ جَمَاعَة جمع جَمَاعَات: (لوگوں کا) گروہ، رسالہ، ٹولہ، جتھا، ٹولی، جمعیت، حلقہ، پارٹی، قوم، عام لوگ، تمام لوگ، سکواڈ (فوجی)۔ جماعاتٍ و افرادًا: گروہوں میں اور فرداً فرداً۔ جَمَاعِیّ: اجتماعی، مشترکہ۔ مَجْمَع جمع مَجَامِع: جگہ جہاں دو یا زائد چیزیں ملیں، اتحاد کی جگہ یا مقام، مقام اتصال، اجلاس، اجتماع، مذہبی اجتماع (عبادت گزاروں کی) جماعت، خصوصی اجتماع، کونشن اسمبلی۔ مـجمع عِلمی: اکاڈیمی، ارباب کلیسا کی انجمن۔ مجمع بَلَـدِیّ: صوبائی کلیسائی مجلس۔ مـجـمـع اِکْلِیرِیکی: پادریوں کی مجلس۔ اخذ مَجامِع القلوب: دلوں کو جیت لینا، دلوں کو لبھانا، فریفتہ کرنا۔ بِمَجامع عینیه: مکمل ارتکاز، پورے انہماک سے۔ مَجْمَعِی: رکن اکاڈیمی، مجلس علمی کا رکن۔ تجمیع: مشین کے پرزے جوڑ کر پوری مشین بنانا۔ جِماع: ہم بستری، کوئی چیز جو دوسری چیز یا چیزوں پر مشتمل ہو۔ الخمر جِماعُ الاثم: شراب گناہ میں مبتلا کرتی ہے، شراب گناہ کا برتن ہے۔ إجـمـاع: اتفاق، کامل آہنگی، یا اتفاق رائے۔ اجماع الرای: اتفاق رائے۔ اجـمـاع عـلـی: کا بالاتفاق عزم۔ اجـمـاع: کسی قانونی مسئلہ میں ماہرین کا اتفاق رائے، اسلامی قانون کے چار اصولوں میں سے ایک اصول۔ بالاجماع: اتفاق رائے سے۔ إجماعی: عام اتفاق پر مبنی، متفق، ہمہ گیر، عالم گیر، اجتماعی، مشترکہ، سب کا۔ تَجَمُّع جمع تجمعات: اکٹھے آنا، ملاقات، اجتماع، فوجی ارتکاز، بھیڑ، ہجوم، انبوہ، اژدحام، عوام، عوام الناس، گولا، ڈلا، چیپ، لیس، چسپیدگی (طب، کیمیا)۔ اجتماع جمع اجتماعات: (ب: کے ساتھ ملاقات) اجتماع، اجلاس، غیر رسمی تقریب یا اجتماع، بچھڑے ہوؤں کا اجتماع، ریلی، کونشن، جوڑ، میل، ساتھ، اتحاد، ستاروں کا جھرمٹ، جمگھا یا مجمع، پنجتر (دریاؤں کا) سنگم، کسی سماجی گروہ میں زندگی، جماعتی زندگی، سماجی زندگی۔ الاجتماع: انسانی سماج، معاشرہ۔ اجتمـاع الطُرُق: چوراہا۔ عِلمُ الاجتماع: عمرانیات۔ علماءُ الاجتماع: ماہرین عمرانیات۔ اجتماعی: جماعتی، قومی، سماجی، معاشرتی، اشتراکی، عمرانیاتی۔ وزارة الشـؤون الاجتمـاعیة: وزارتِ معاشرتی امور۔ الـحـالة الاجتـمـاعیة: ذاتی حیثیت، انفرادی حیثیت، نجی حیثیت۔ الـخـدمة الاجتـمـاعیـة: سماجی کام یا خدمت۔ المساواة الاجتماعیة: سماجی برابری، مساوات۔ الهیئة الاجتـمـاعیة: انسانی معاشرہ۔ اجتـمـاعیة: اشتراکیت۔ جَـامِع: قابل فہم، قابل شمول، پورا، مکمل، جامع، وسیع، عام، عالمگیر، ہمہ گیر، جمع کرنے والا، (کتاب) کا مولف، ٹائپ سیٹ کرنے والا، ٹائپ کے حروف جوڑنے والا۔ جمع جَـوَامِـع: مسجد۔ مـسـجـد جامع: جامع مسجد۔ جَـامِعَة جمع جـامِعَات: انجمن، یونین، ایسوسی ایشن، فیڈریشن، قوم، مذہبی لوگ، مذہبی فرقہ یا جماعت، اشتراک مفادات یا مقصد، یونیورسٹی۔ جـامـعة الکهـربـاء: برقی مخزن، برقی ذخیرہ، برقی مخزن accumlator۔ جـــامـعة الأمَـم: انجمن اقوام۔ الـجـــامـعة الاســـــلامیة: اتحاد اسلامی، اتحاد عالم اسلامی۔ الـجامعة العَرَبِیة: اور جـامـعة الدُوَل العربـیـة: عرب لیگ۔ جـامـعة شـعـبیة: یونیورسٹی اکسٹنشن، تعلیم بالغاں کے کورس، شام کو پڑھائے جانے والے کورس۔ جَـامِـعِی: جامعاتی، تعلیمی، درسی، کلیاتی۔ مَـجْـمُـوع: جمع کیا ہوا، یکجا کیا ہوا، اکٹھا کیا ہوا، مجموعیت، پورا، تمام، مجموعی، رقم، میزان (حساب)۔ الحروف المجموعة: ٹائپ حروف۔ مجموع اراضی القُطْر: ملک کا کل رقبہ۔ مجموعُ طولِه: کی کل لمبائی۔ الـمجـموعُ العَصَبِـی: اعصابی نظام۔ مـجموعة جمع مـجموعات: مجموعہ، (فن پاروں، ڈاک کے ٹکٹوں، کہانیوں وغیرہ کا)، تالیف، تدوین، فہرست، (درختوں جزیروں کا) مجموعہ، (اخبارات میں مضامین کا) سلسلہ، بیٹری battery، اتحاد، انجمن، (ریاستوں کا) بلاک، اجتماعی تنظیم، جملہ، مجموعہ (عمارات کا) بلاک یا کمپلکس؛ نظام اعلامیہ، سرکاری خبرنامہ، بلیٹن۔ موقت الشیوع چیز (جیسے اخبار، رسالہ وغیرہ)۔ الـمجـموعة الشـمسیه: نظام شمسی۔ مـجموعة صِناعِیَة: سنڈیکیٹ، تعاونی انجمن۔ مُـجَـمِّـع: جمع کرنے والا، فراہم کرنے والا، برقی مخزن، مخزن برق، برقی مخزن۔ مُجْمَع علیه: متفق، بالاتفاق رائے سے، جس پر اتفاق کیا گیا۔ مُجْتَمَع جمع مُجْتَمَعَات: اجتماع کی جگہ، اکٹھا ہونے کی جگہ، ملنے کی جگہ، وعدہ کی ملاقات کا مقام، اجتماع، اجلاس، سوسائٹی، سماج، معاشرہ، انسانی معاشرہ، قوم، پنچایت، تنظیم جس میں کام کرنے والے اس کے مالک بھی ہوں۔ جیسے وہ کھیت جس میں کام کرنے والے کھیت کے مالک ہوں، تعاونی تنظیم۔

جمک: الجامِکِیّة جمع جامِکِیّات و الجَوْمَك جمع جَـــوامِك: سول اور فوجی ملازمین کی تنخواہ (ترکی

لفظ)۔

جمل: جَمَلَ ـجَمْلاً الشیءَ: کو جمع کرنا۔أَجْمَلَ الشیءَ: کو جمع کرنا یا کا بطور اجمال ذکر کرنا۔کہا جاتا ہے:اجمل الحساب و الکلام ثم فَصَّلَهُ و بَیَّنَه: اس نے پہلے حساب اور گفتگو کا مجملاً ذکر کیا پھر اس کی تفصیل کی۔حسابُ الجُمَّل: ابجد میں جمع شدہ حروف تہجی کا حساب، اس کو حساب الابجدیہ بھی کہا جاتا ہے اور شاعر اپنے شعروں میں تاریخیں نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔الجُملَة جمع جُمَل: مجموعہ، جملہ (وہ کلام جو مسند اور مسند الیہ سے مرکب ہو)۔جملہ اسمیۃ: الخیرُ عمیمٌ: بھلائی سب کو محیط ہے۔جملہ فعلیة: عَمَّ الخیرُ: بھلائی عام ہوئی۔الجُمَل: لوگوں کی جماعت۔الجُمَل و الجَمَل و الجُمَّل و الجُمالَة: موٹی رسی۔

۲۔جَمَلَ ـجَمْلاً و اِجْتَمَلَ الشحمَ: چربی پگھلانا۔جَمَّلَ الشحمَ: چربی پگھلانا۔أَجْمَل: پگھلی ہوئی چربی کھانا۔۔۔ الشحمَ: چربی پگھلانا۔الجَمِیل: پگھلی ہوئی چربی۔

۳۔جَمُلَ ـجَمالاً: خوش صورت، خوش سیرت ہونا صفت:جمیل مؤنث جمیلة۔ جَمَّلَ ہ: کو خوبصورت بنانا۔جامَلَ ہ: ے ساتھ خوش معاملگی سے پیش آنا، کی تواضع کرنا۔أَجْمَلَ الشیءَ: کو خوبصورت بنانا، زیادہ کرنا۔۔۔ فی العمل: کام خوش اسلوبی سے انجام دینا۔۔۔ فی الکلام: گفتگو نرمی اور احتیاط سے کرنا۔۔۔ فی الطلب: طلب میں میانہ روی سے کام لینا۔تَجَمَّلَ: آراستہ ہونا، خوبصورت ہونا، مصائب زمانہ پر صبر کرنا اور ذلت ظاہر نہ ہونے دینا، حیاء کو نہ چھوڑنا اور بری جزع فزع سے دامن کو بچائے رکھنا۔اِستَجْمَلَ الشیءَ: کو خوبصورت سمجھنا۔الجَمال (مص): حسن۔کہتے ہیں: جَمالَكَ ان لم تفعل كذا: تمہارے لئے یہی زیبا ہے کہ ایسا نہ کرو۔الجَمالِيَّة: جمالیات، علم جمال۔الجَمِیل: احسان، نیکی۔الجُمّال: خوبصورت، خوبصورت سے زیادہ خوبصورت۔الجَمْلاء: حسین عورت (اس کے لئے افعل کا صیغہ نہیں آتا جس طرح دیمة هطلاء میں)۔

۴۔جَمَّلَ الجیشَ: فوج کو دیر تک روکے رکھنا۔

۵۔أَجْمَلَ القومُ: لوگوں کا بہت اونٹوں والا ہونا۔اِستَجْمَلَ البعیرُ: اونٹ کا جوان ہونا۔الجَمَل جمع جِمال و أَجْمال و جُمْل و جمالة (بتثلیث الجیم) و جج جمالات (بتثلیث الجیم) و جَمائِل (ح): اونٹ، ایک یا دو کوہانوں والا (جمل کا اطلاق اونٹنی پر شاذ و نادر ہوتا ہے۔مثلاً کہتے ہیں: شربتُ لبنَ جملی (میں نے اپنی اونٹنی کا دودھ پیا)۔اتخذ اللیلَ جَمَلاً: وہ ساری رات چلتا رہا، گویا وہ رات بھر اونٹ پر سوار رہا اور سویا نہیں۔جمل البحر (ح): ایک بڑی مچھلی۔۔۔ الیهود: گرگٹ۔۔۔ الماء: لمبی چونچ والا ایک آبی پرندہ۔الجامِل (فا): اونٹوں کا ریوڑ مع ان کے چرواہوں کے۔اونٹوں کا مالک۔الجَمّال جمع جَمّالة: اونٹوں کا مالک یا ساربان۔

○ جَمَلَ ـجَمْلاً ہ: کا خلاصہ کرنا، کی تلخیص کرنا۔

جَمُلَ ـجَمالاً: خوبصورت ہونا، حسین ہونا، خوبرو ہونا، مہربان اور عالی ظرف ہونا، شکیل ہونا، خوش اندام ہونا، دلکش ہونا، دلربا ہونا۔۔۔ ب۔۔۔: کے لئے مناسب ہونا، موزوں ہونا، برمحل ہونا، ٹھیک ہونا، کو پھبنا، کی شایان شان ہونا۔جَمَّلَ ہ/ ہ: کو خوبصورت بنانا، سجانا، آراستہ کرنا، مزین کرنا، سنوارنا، زینت دینا، سنگار کرنا، (بیان) کو چٹ پٹا بنانا، کی سج دھج کرنا۔جامَلَ ہ: کے لئے شائستہ، مہذب، خوش اخلاق یا خوش مذاق ہونا، متواضع ہونا، باادب ہونا، ملنسار ہونا۔أَجْمَلَ ہ: کا میزان لگانا، جمع کرنا، کو کل سمجھنا، کا مجموعی طور پر ذکر کرنا، کا خلاصہ کرنا، کی تلخیص کرنا۔۔۔: پرلطف ہونا، اچھی طرح کرنا، سلیقہ سے کرنا۔تَجَمَّلَ: اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا، سجانا، اپنی سج دھج کرنا۔تَجامَلَ: ایک دوسرے سے خلیق ہونا، متواضع ہونا، دوستی کا برتاؤ کرنا، مہربانی اور محبت سے پیش آنا۔جُمْلَة جمع جُمَل: مجموعیت، کلیت، مجموعہ، جمع، میزان، خلاصہ، سب، سارا، تمام گروہ، غول، جھنڈ، ٹولی، جسم، جمگھٹا، بھیڑ، ہجوم، انبوہ، تھوک، جملہ (گرامر) چھوٹا جملہ۔جُمْلَةً: مکمل طور پر، سارا، پوری طرح، بحیثیت مجموعی، سب ملا کر، کل۔فی الجملة: عام طور پر، عموماً، بہرصورت۔جملةً واحدةً: یکا یک، اچانک، جھپٹا مار کر۔جملةُ الکائنات: ہر موجودہ چیز۔کان من جملة اصحابه: وہ اس کا ایک ساتھی تھا، اس کا تعلق اس کے ساتھیوں سے تھا۔قال فی جملة ماقال: علاوہ دیگر باتوں کے، اس نے کہا۔و جملةُ القولِ أنَّ و جملة الأمرِ أنَّ: الغرض، قصہ کوتاہ، المختصر، خلاصہ یہ کہ، مختصراً یہ کہ۔علی الجملة: قصہ کوتاہ، مختصراً۔بالجملة: بحیثیت مجموعی، پوری طرح، سارا، سب ملا کر، کل۔فی الجملة: عام طور پر، عموماً، بہرصورت، تھوک کے حساب سے۔جملة الاجرة المستحقة: کل اجرت۔تاجر الجملة: تھوک فروش۔سعر الجملة: تھوک قیمت۔جملة اسمیة: اسمی جملہ۔جملة فعلیة: فعلی جملہ۔جملة اِخباریة او خبریة: توضیحی، تشریحی، جملہ۔جملة انشائیة: جملہ انشائیہ۔جملة حالیة: جملہ حالیہ۔جملة شرطیة: جملہ شرط۔جملة معترضة: جملہ معترضہ (گرامر کی کتاب میں تفصیل ملاحظہ کریں)۔حسابُ الجُمَّل: حروف ابجد کا ان کی عددی قیمت کے مطابق استعمال۔جَمال: خوبصورتی، حسن۔علمُ الجمال: جمالیات۔جمیل: خوبصورت، حسین، خوبرو، شکیل، خوش اندام، دلکش، دلربا، دوستانہ عمل، مہربانی، احسان، خدمت، نیکی، خوش اخلاقی، تواضع، شائستگی، نوازش، کرم۔اعتراف بالجمیل و معرفة الجمیل اور عرفان بالجمیل: شکرگزاری، احسان مندی۔نُکْرانُ الجمیل: ناسپاسی، ناشکرگزاری، احسان فراموشی، بے وفائی، نمک حرامی۔ناکِرُ الجمیل: ناشکرا، احسان فراموش۔حفظ له جمیلاً: کو احسان مندی و شکرگزاری سے یاد رکھنا، کو اپنی پیاری یادوں میں رکھنا۔اجمل: زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین۔تجمیل: خوبصورت بنانا، تزئین، آراستگی، سنگھار، سجاوٹ، زیبائش، سنگھار کا سامان، غازہ و گلگونہ وغیرہ۔مُجامَلة جمع مُجامَلات: خوش اخلاقی، تواضع، شائستگی، نوازش، کرم (کا عمل)، احسان، مروت، شرافت، خلق، تہذیب، انسانیت، دل آویزی، دلکشی، چاپلوسی، خوشامد۔مُجامَلةً: دوستانہ طور پر، آشتی سے۔زیارة مجاملة: رسمی ملاقات۔قواعدُ المجاملة: آداب مجلس، پیشہ ورانہ آداب۔اِجمال: جمع، جوڑ، میزان، خلاصہ، تلخیص، لب لباب۔اِجمالاً: بحیثیت مجموعی، عام طور پر، عموماً، ایک عام اصول کے طور پر۔اِجْمالاً لذلك اقول: مختصراً عرض کرتا ہوں۔فی اجمالِه: تمام تر، یکسر، عام طور پر، عموماً ایک چیز کے طور پر۔بالاجمال و علی الاجمال: عام طور پر، عموماً، بحیثیت مجموعی، فی الجملہ، سب ملا کر، کل۔بوجه الاجمال: بمعنی اِجمالاً۔اِجمالی: میزان، سرسری، قابل فہم، قابل شمول، عام مجموعی، مجموعی طور پر، کلی، مکمل، ہمہ گیر، مشترکہ، اجتماعی، سب کا۔تقریر اجمالی: مجموعی رپورٹ۔غرامة اجمالیة: اجتماعی یا مشترکہ جرمانہ۔نظرة اجمالیة: عام منظر۔

مُجْمِل جمع مُجْملون: تھوک فروش ـمُجْمَل: خلاصہ، ملخص، خاکہ، لب لباب، عام تصور، عام خیال، میزان ـبالمُجْمَل: تھوک کے حساب سے۔

جمن: ۱ـالجُمان: واحد جُمانَة: موتی، فارسی لفظ۔

۲ـالجِمْناز: ورزش گاہ، دنگل، اکھاڑہ Gymnasium۔

۳ـالجِمْناسْتِك: ورزش کا طریقہ، ورزشی موڑ توڑ، جسمانی موڑ توڑ Gymnastic (یونانی لفظ)۔

جمہ: ۱ـجَمْهَرَ ـجَمْهَرَةً الشيءَ: کو جمع کرنا، کا بڑا حصہ لینا ـــ و تَجَمْهَرَ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا ـالجُمْهُور جمع جماهير: لوگوں کا گروہ، چیز کا زیادہ حصہ، قوم کے ذی مرتبہ اور شرفاء، تہ بہ تہ بہت سی ریت ـالجُمْهُورِیّ: جمہور کی طرف منسوب، جمہور کی، جمہور کے متعلق، نشہ آور شراب یا پکایا ہوا رس۔ الـجُمْهُورِيَّة: قوم یا ملک جس کا صدر ایک مقررہ مدت کے لئے عام مخلوق کی رائے سے چنا گیا ہو۔ الـمُجَمْهَرات: معلقات کے بعد دوسرے درجہ کے ایام جاہلیت کے سات جید قصائد۔

۲ـجَمْهَرَ ـجَمْهَرَةً عليه الخبرَ: کو تھوڑی سی خبر دینا اور مقصود کو اس سے پوشیدہ رکھنا۔

۳ـتَجَمْهَرَ: زیادتی کرنا ـکہا جاتا ہے: تَجَمْهَرَ علینا: اس نے ہمیں حقیر سمجھا اور ہم پر زیادتی کی۔

○ جَـمْهَـرَ ہ/ ہ: کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ تَـجَمْهَرَ: ایک جگہ جمع ہونا، اکٹھا ہونا، مل کر بیٹھنا یا چلنا ـجَمْهُور جمع جَمَاهِير: بھیڑ، انبوہ، عوام۔ الـجماهير: عوام الناس، عوام ـجَمْهُورِی: جمہوریت پسند، جمہوریت کا حامی، جمہوریہ کا۔ الـجمهورية العربية المتحدة: متحدہ عرب جمہوریہ ـالجمهورية الاتحادية الالمانية: وفاقی جمہوریہ جرمنی ـالجمهورية الديمقراطية الالمانية: جرمن، جمہوری جمہوریہ ـتَجَمْهُر: (لوگوں، بھیڑ، عوام کا) اجتماع۔

جما: الجَمَا و الجُمَا: ابھرا ہوا پتھر، جسم کا اٹھا ہوا حصہ جیسے چھاتی۔

جمی: جَمَى ـجَمْيًا الماءُ: پانی کا بہت ہونا ـتَجَمَّى القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا ـجَمَاءُ و جُمَاءُ و جَمَاءَ ةُ الشيء: چیز کا حجم، یا جسم۔

جن: جَنَّ ـجَنًّا و جُنُونًا و جَنَانًا الليلُ: رات کا تاریک ہونا، یا اس کی تاریکی کا خلط ملط ہونا ـــ جَنًّا و جُنُونًا الليلُ الشيءَ و عليه: رات کا کسی چیز کو ڈھانپنا، چھپانا ـجَنَّ ـجَنًّا الجنينُ في الرَّحِم: بچہ کا رحم میں چھپنا ـجُنَّ جَنًّا و جُنُونًا عنه: سے چھپنا ـاَجَنَّ عنه: سے چھپنا ـــ ہ الليلُ: کو رات کا چھپا لینا، ڈھانپ لینا ـــ المیّتَ: مردہ کو کفنانا، دفنانا ـاِجْتَنَّ الشيءَ: کو چھپانا ـــ و اِسْتَجَنَّ: چھپنا ـجِنُّ الليل: رات کی تاریکی ـــ الناس: لوگوں کی بڑی جماعت ـکہا جاتا ہے: لاجِنَّ بهذا الامر: اس امر میں کوئی پوشیدگی نہیں ـــ و الجِنَّة: واحد جِنِّی مونث جِنِّيَة: جن، دیو، پری ـالجَانّ جمع جِـنَّـان: جن کا اسم جمع ـالجَنَّة جمع جِـنَان و جَـنَّـات: باغ ـارضی یا سماوی فردوس ـالجُنَّة جمع جُنَن: پردہ ـــ و المِجَنّ و المِجَنَّة جمع مَجَانّ: ہتھیاروں سے بچاؤ کی چیز، ڈھال ـکہا جاتا ہے: قَلَبَ مِجَنَّهُ: اس نے شرم وحیاء کو بالائے طاق رکھا اور خود رائے ہوگیا ـقَلَبَ لہُ ظهرَ المِجَنّ: اس نے اس کی دوستی چھوڑ کر دشمنی اختیار کر لی ـالـجَـنَنُ جمع اَجْنَان: قبر، مردہ، کفن ـالـجُنَان و الجُنَانة: ڈھال ـالـجَنَان جمع أَجْنَان: رات یا اس کی سخت تاریکی، مخفی امر، دل ـــ مِن كلِّ شيء: ہر شے کا جوف ـالـجَنِين جمع اَجِنَّة و أَجْنُن: ہر پوشیدہ چیز، قبر، پیٹ کا بچہ، مدفون ـالـمَجَنَّة: چھپنے کی جگہ، جنوں والی زمین۔

۲ـجُنَّ جَنًّا و جُنُونًا: پاگل و دیوانہ ہونا ـصفت: مَجْنُون جمع مَجَانِين۔ اَجَنَّ و جَنَّ ہ: کو دیوانہ بنا دینا ـتَـجَنَّنَ و اسْتُجِنَّ: پاگل ہونا ـتَـجَانَّ و تَجَانَنَ: اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنا ـما اَجَنَّهُ: فعل تعجب بمعنی وہ کتنا پاگل ہے ـیہ خلاف قاعدہ ہے کیونکہ یہ مفعول کے معنی میں ہے جب کہ فعل تعجب فاعلی معنی دیتا ہے ـالـجِـنَّـة: جنون، دیوانگی، پاگل پن۔ الـجُنُون و الجُنَن: دیوانگی ـالـجُنُون المُطْبِق: کامل دیوانگی ـالـمَجَنَّة: جنون، دیوانگی ـکہا جاتا ہے: به مَجَنَّة: اس میں دیوانگی ہے۔

۳ـجُنَّ جَنًّا و جُنُونًا النبتُ: سبزہ کا دراز اور گنجان ہونا ـــ ت الارضُ: زمین کا پھول اگانا ـالجِنّ و الـجِنَّة من النبت: پودہ کی کلی، پھول ـــ من الشباب: آغاز شباب، عنفوان جوانی۔

۴ـجُنَّ جَنًّا و جُنُونًا الذبابُ: مکھیوں کا بہت بھنبھنانا ـکہا جاتا ہے: جُنَّ الذباب بالروض: سبزہ کو دیکھ کر مکھیاں مستی سے بھنبھنا رہی ہیں ـاِسْتَجَنَّ فلانًا: کو کھیل اور طرب کی طرف بلانا۔

○ جَنَّ ـجَنًّا و جُنُونًا ہ/علی: کو چھپانا، ڈھانپنا ـ(رات کا) اتر آنا، پڑنا یا تاریک ہو جانا ـجُنَّ: پاگل ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، جن بھوت پریت کا سایہ ہونا ـجُنَّ جُنُونُهُ: پاگل پن سے جوش میں آنا، بدحواس ہو جانا۔ جَنَّنَ ہ: کو دیوانہ کرنا، کو غضبناک کرنا، غصہ دلانا، طیش میں لانا ـاَجَنَّ ہ: کو چھپانا، ڈھانپنا، نیز بمعنی جَنَّنَ۔ تَـجَنَّنَ: پاگل ہو جانا، سودائی ہو جانا ـاِسْتَجَنَّ: چھپنا، ڈھک جانا ـــ ہ: کو پاگل و سودائی سمجھنا، خیال کرنا ـجِـنّ: اسم جمع: جن، آسیب، بھوت پریت، بھوت، دیو ـجِنِّی: عفریتی، آسیبی، بھوت پریت کا، جن، بھوت، دیو ـجِنِّيَة: پری، بھوتنی ـجَـنَّـاتُ النعيم: بہشت، جنت، فردوس ـساكِنُ الجِنان: بہشتی، جنتی، وفات شدہ شخص، قابل تعریف یادداشت کا حامل ـجُنَيْنَة جمع جُنَيْنات و جَنَائِن: باغیچہ، باغ ـجَنَائِنِی: باغبان ـجِنَّة: آسیب زدگی، وہم کا غلبہ، خیالی خطرہ، وہمی دہشت، وہم، غلط خیال، جنون، دیوانگی، ضبط، حد درجہ جوش ـجُنَّة جمع جُنَن: حفاظت، پناہ، ڈھال ـجَنَان جمع اَجْنَان: دل، روح ـجَنَّان: باغبان ـجَنِین جمع اَجِنَّة و أَجْنُن: بچہ جو ابھی پیدا نہ ہوا ہو، (بیج وغیرہ میں) تخم ـجُـنُـون: پاگل پن، دیوانگی، وہم، غلط خیال، خبط، خلل دماغ، مالیخولیا، سودا، بیوقوفی، حماقت، اضطراب، ہیجان، طیش، غیض، سخت غصہ، وجد، حال ـالـجُنُون فُنُون: پاگل پن کی کئی قسمیں ہیں، دیوانگی اپنے آثار مختلف طریقوں سے ظاہر کرتی ہے ـجُـنُـونی: پاگل، دیوانہ، مضطرب، بدحواس ـمِجَن جمع مَجَان: ڈھال ـمَجَنَّة: دیوانگی، پاگل پن ـجَـانّ: جن، دیو، بھوت (جمع) مَـجْـنُون: پاگل، جس پر کسی کا سایہ ہو، آسیب زدہ، جنونی، دیوانہ، مجنون، سودائی، سنکی، پاگل، مخبوط الحواس، احمق، عجیب وغریب خیالات رکھنے والا۔

جنی: جَنِیَ ـجَنًا: کبڑا ہونا ـصفت: اَجْنَا مونث: جَنْـآء ـجَنَأَ ـجُنُوءًا و أَجْنَأَ اِجْنَاءً و جَانَأَ مُجَانَاةً و اجْتَنَأَ و تَجَانَأَ تجانُؤًا علیه: کسی کو بچانے کے لئے اس پر اوندھا ہو جانا۔

جنب: اـجَنَبَ ـجَنْبًا ہ: کو دفع کرنا، ہٹانا، دور کرنا ـــ ہ الشيءَ: کسی سے کوئی چیز دور کرنا ـجَـنَّـبَ هُ الشيء: سے کوئی چیز دور کرنا ـــ تَجَنَّبَ و تَجَانَبَ و اجْتَنَبَ هُ: سے دور ہونا ـأَجْنَبَ ہ: کو دور کرنا ـــ الرجلُ: دور ہونا ـاِسْتَجْنَبَ: جنب ہونا، ناپاک ہونا ـالـجَنْب (مص): جانب، طرف، پہلو، آپ کہتے ہیں: قعدت الی جنب فلان و الی جانبه و جَنَابه: میں فلاں شخص کے پہلو یا اس کے ایک جانب بیٹھا ـالـجُنُب: دور، نافرمان، اجنبی ـالـجارُ الـجُنُب: اجنبی ہمسایہ ـالـجَنِب: گوشہ نشین، کنارہ

کش، اجنبی، مسافر۔الجَانِب جمع جَوَانِب: جانب، گوشہ، طرف، ـــــ جمع جُنّاب: نافرمان، بدیسی، اجنبی۔الجَنَاب جمع أَجْنِبَة: گوشہ، صحن۔الجُنبَة: وہ چیز جس سے بچا جائے۔الجَنْبَة: جانب، گوشہ نشینی۔بالأَجنَب جمع أَجَانِب: نافرمان ـــــ و الأَجْنَبِي: بدیسی، غیر ملکی، اجنبی، مسافر۔المِجْنَب: پردہ، ڈھال۔

۲۔جَنَبَ ـجَنْبًا ہ: کے پہلو پر مارنا۔آپ کہتے ہیں: ضربه فجَنَبَهُ: اس نے اس کے پہلو پر مارا۔جَنَبًا و مَجْنَبًا البعیرَ: اونٹ کو کوتل لے جانا۔صفت مفعولی۔جنیب و مُجنَّب و مَجْنُوب مؤنث جَنِیبَة۔ کہا جاتا ہے فرسٌ جَنِیبٌ: کوتل لے جایا جانے والا گھوڑا۔خیل جَنَائِب: کوتل لے جائے جانے والے گھوڑے۔جُنِبَ: پہلو کے درد میں مبتلا ہونا، کو نمونیا ہو جانا، صفت مَجْنُوب۔ جَانَبَ ہ: کے پہلو میں چلنا۔الجَنْب (مص) جمع اجناب و جُنُوب: پہلو۔جارُ الجَنْب: قریبی ہمسایہ۔ذاتُ الجَنْب (طب): نمونیا۔الجَنَب: کچھ لنگڑا پن۔ جُنُبًا و جَنْبَتًا و جَنَابَتَا الانف: ناک کے دونوں طرف۔الجانِب جمع جَوَانِب: پہلو۔وہ گھوڑا جس کی ٹانگوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ ہو۔کہا جاتا ہے: هو لَیِّنُ الجانِب: وہ فرمانبردار ہے، تربیت پذیر ہے۔هو رقیق الجانِب: وہ لطیف ہے۔الجُنَاب او ذات الجَنْب (طب): نمونیا۔الجَنَاب جمع أَجْنِبَة: قریبی محلہ۔کہا جاتا ہے أخصب جنابُ القوم: قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔فلانٌ خصیبُ الجناب او حدیبه: فلاں شخص سرسبز یا قحط زدہ ہے۔الجناب: جَانَبَ کا مصدر۔کہا جاتا ہے فرس طوع الجناب: جلد رام ہونے والا گھوڑا۔الجنیب: نمونیا کا مریض۔ہر مطیع و فرمانبردار۔الجَنِیبَة: کوتل جانور۔الجُنَّاب: پہلو میں چلنے والا۔المُجَنِّبَة (اع): فوج کا ہراول۔المُجَنِّبَتَان من الجیش: فوج کا دایاں اور بایاں بازو (میمنہ و میسرہ)۔

۳۔جَنَبَ ـجُنُوبًا الریحُ: جنوبی ہوا کا چلنا۔جُنِبَ و أُجْنِبَ و أُجْنِبَ القومُ: قوم کو جنوبی ہوا لگنا۔الجَنُوب جمع جَنَائِب: دکھن، جنوب، دکھنی ہوا۔

۴۔جَنِبَ ـجَنَبًا و جَنِبَ ـجَنْبًا الیه: کی طرف مائل ہونا، کا مشتاق ہونا اور کے لئے بے چین ہونا۔

۵۔جَنُبَ ـجَنَابَةً الرجلُ: ناپاک ہونا۔الجُنُب: ناپاک (واحد، تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث سب کے لئے یہی مستعمل ہے)۔الجَنَابَة: ناپاکی، نجاست۔

۶۔الجَنْبَة جمع جَنَب من النبات: (ز) ہر وہ پودا جو سبزی سے بڑا اور درخت سے چھوٹا ہو۔المَجْنَب: بہت خیر یا شر۔کہا جاتا ہے إنَّ عندنا خیراً مَجْنَبًا و شراً مَجْنَبًا: ہمارے پاس بہت خیر اور بہت شر ہے۔المَجْنَبَة: سامنے کا حصہ۔

۷۔جَنْبَذَ الكیلَ: پیمانہ کو انتہائی سرے پر پہنچانا۔الجُنْبُذَة: ہر بلند چیز، اونچی اور گول زمین۔

⊙ جَنَبَ ـجَنْبًا ہ/ ہ: سے کچھ ہٹانا، پھیرنا، موڑنا۔جَنَّبَ ہ ہ: سے کوئی چیز دور رکھنا، ہٹانا، کو کے راستہ سے باہر رکھنا۔تَجَنَّبَ ہ: سے پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، بچنا، کی کتراتا، احتراز یا گریز کرنا، سے دور رہنا، کے راستہ سے نکل جانا۔جانَبَ ہ: کے پہلو میں ہونا یا چلنا ـــــ ہ: کے ساتھ ساتھ دوڑنا، کے برابر دوڑنا، کے کنارے کنارے جانا، کے کنارے واقع ہونا، کے پہلو میں واقع ہونا، سے پہلو تہی کرنا، گریز کرنا، احتراز کرنا۔تجانَبَ و اجتنب بمعنی تَجَنَّبَ۔ اجتنب ہ: کے پہلو میں ہونا، کے ساتھ ساتھ دوڑنا، کے ساتھ دوڑنا، کے کنارے کنارے جانا، کے کنارے واقع ہونا، کے پہلو میں واقع ہونا۔جَنْب جمع جُنُوب و اَجناب: پہلو، رخ، طرف۔جَنْبَ: کے پہلو میں، کے ساتھ، کے کنارے کے نزدیک، کے مقابلے میں، کے پاس سے باہر، کے علاوہ۔جَنْبًا الی جَنْبٍ یا جَنْبًا لِجَنْبٍ: پہلو بہ پہلو۔بَیْنَ جَنْبَیهِ: کے اندر، کے اندر اندر۔مابَیْنَ جَنْبَیهِ: جس پر یہ مشتمل ہے، اس کی محتویات، مضمون، مافیہ۔علی جَنْبٍ: ایک طرف، ایک جانب، پرے، الگ، علیحدہ، جدا۔ذاتُ الجنب: پھیپھڑے کی جھلی کا ورم، ذات الجب، ذات الصدر۔جَنْبَة جمع جَنَبَات: پہلو، طرف، علاقہ، رقبہ۔في جَنَباتہ: اس میں، اندر۔ضَمَّهُ بین جنباته: پر مشتمل ہونا، کو شامل ہونا، پر محیط ہونا، کی گنجائش رکھنا۔جَنَبَاتُ الغُرفَة: پورا کمرہ۔بین جنبات الغُرفة: کمرے میں، کمرے کے درمیان میں ـــــ زاخرُ الجَنَبَات: لبالب، کھچا کھچ، منہا منہ بھرا ہوا، چھلکنے یا پھٹنے کی حد تک بھرا ہوا۔جَنْبِي: پہلو کا، بغلی۔جُنُب: ناپاکی کی حالت میں جس کے لئے غسل ضروری ہو، قبیلے سے غیر متعلق، غیر رشتہ دار۔الجار الجنب: پڑوسی جو کنبہ سے نہ ہو۔جَنَاب: احترام کا خطاب۔والا جناب۔جنابکم: آپ، جناب والا۔جَنَابَة: ناپاکی (جو غسل سے دور ہو)۔جُنَاب بمعنی ذاتُ الجنب۔جنوب

جنوب جَنُوبًا: جنوب کی طرف، جنوب کے رخ۔جَنُوبِي: جنوبی، دکھنی۔جنوبي افریقیا: جنوبی افریقہ۔جانِب جمع جَوَانِب: طرف، پہلو، رخ، بغلی حصہ، ایک طرف کا ٹکڑا، لشکر کے پہلو کا حصہ، بازو، سامنے کا حصہ، رخ، پیش، حصہ، جزوی رقم، جزوی منظر۔من: کسی منظر، تصویر یا سیر بین کا حصہ، مقدار، عدد، رقم کا، چند، کچھ۔من جانبه: اس کی طرف سے۔من جانبٍ ـ من جانبٍ آخر: ایک طرف تو ...... دوسری طرف۔بالی جانبه: کی طرف، کے پتہ پر، اس کے پہلو میں، کے ساتھ۔بالی جانب اور بجانب: کے پہلو بہ پہلو، کے علاوہ، سے قطع نظر۔وَضَعَهُ جانِبًا: کو ایک طرف یا ایک جانب رکھنا۔ودعه جانِبًا: کو ایک طرف چھوڑ دینا، کو چھوڑ دینا، نہ کرنا۔في جانبِ: کے مقابلے میں، کے بارے میں، کے متعلق۔مابینَ جوانِبِهم: ان کے دل۔جانبا الفم: منہ کے کنارے۔جانبٌ من: کی بڑی مقدار، کی کوئی مقدار، کی بڑی رقم، تعداد، کافی، کچھ۔جانبٌ کبیرٌ من: کافی، کا بڑا حصہ۔هو علی جانبٍ کبیر من: وہ بہت ...... ہے۔کان علی جانبٍ عظیم من الکرم: بہت فیاض ہونا۔علی جانبٍ عظیم من الاهمیة: بڑی اہمیت کا۔علی أعظمِ جانبٍ من الخُطُورة: انتہائی اہمیت، عظیم ترین اہمیت کا۔في کل جانبٍ: ہر جگہ، ہر طرف۔خفض له جانبَه: کے لئے اپنے انکسار کا مظاہرہ کرنا، سے مروت اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، سے مہربانی سے پیش آنا، سے منصفانہ شرائط کے ساتھ ملنا۔اَمِنَ جانبَه: سے محفوظ ہونا۔لم أُعِرهُ جانبَ اهتمام: میں نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی۔خاف (رهب، هاب) جانبَهُ: سے خوف کھانا، خوفزدہ ہونا۔مَلَکُ الجانب: شاہی واراضی۔جانبُ المیری: خزانہ عامرہ، سرکاری خزانہ۔لَیِّنُ الجانب: شریف، سلیم الطبع، فرمانبردار، اطاعت شعار، تربیت پذیر۔لِینُ الجانب: شرافت، نرمی، شائستگی، حلم، بردباری۔رَحْبُ الجانب: کشادہ، وسیع، فراخ، گنجائش والا، کھلا۔رقیق الجانِب: دوستانہ، دل آویز، دلکش، شریف، سلیم الطبع۔مرهوب الجانب: خوف زدہ، دہشت زدہ۔عزیز الجانب: طاقتور، قوی، مضبوط، زورآور، بہت طاقتور، دیو ہیکل۔عزة الجانب: قوت، طاقت، اختیار، قابو، اقتدار، حکومت۔مَهیبُ الجانب: محترم، جس سے ڈر آئے۔في جوانبِ الدار: تمام

گھر میں۔اکثر فی جوانبه: میں جانِبی: بغلی،
پہلو کا۔اجنَبی: غیر ملکی، پردیسی، جمع اجانب: غیر
ملکی، پردیسی۔البلاد الاجنبیة: بدیسی ممالک غیر
ممالک، بیرونی دنیا۔فِرقَةُ الاجانب: خصوصی فوجی
یونٹ، خصوصاً رضاکاروں پر مشتمل جو کسی دوسرے
ملک کی فوج کے ساتھ خدمات دے رہا ہو۔
foreign legion۔جَنَّابِیة جمع جنابیات:
کنارہ، پشتہ، بند، سیلابی پشتہ، بغلی پانی کی گذرگاہ، بغلی
سڑک، بغلی ریلوے لائن، پانی کے بند کا دروازہ یا دریا
کا پشتہ کھولنے پر پانی نکلنے کا مخفی راستہ۔تَجَنُّب:
احتراز، گریز، کنارہ کشی۔اِجتِناب: احتراز، گریز،
کنارہ کشی۔مُجَنِّبَة: (فوج کا) بازو، پہلو کا حصہ،
میمنہ، میسرہ۔

○ جُنبَاز و جُمبَاز: جسم کی طاقت اور خوبصورتی
بڑھانے کے لئے ورزش، زنانی کسرت، جسمانی
کرتب، ورزشی کرتب۔جُنبَازِی و جُمبَازی:
ورزشی۔کسرتی۔الالعاب الجُمبَازِیة: کسرتی
یا ورزشی مشقیں، جسمانی مشقیں۔

جنث: تَجَنَّثَ الرجلُ: غیر قوم میں سے ہونے کا دعویٰ
کرنا۔۔۔ علیه: سے محبت کرنا، پر مہربان و شفقت
کرنا۔۔۔ الطائرُ: پرندے کا بازو پھیلا کر بیٹھنا۔
الجُنثِیّ جمع جُنثِیَّة: عمدہ لوہا، تلوار۔

جنح: جَنَحَ جُنُوحًا الیه: کی طرف مائل ہونا۔اَجنَحَ
ہ: کو مائل کرنا، جھکانا۔۔۔ الیه: کی طرف مائل ہونا،
جھکنا۔اِجتَنَحَ: ایک پہلو پر جھکنا۔۔۔ الیه: کی طرف
مائل ہونا۔تَجَنَّحَ: ایک پہلو پر جھکنا۔اِستَجنَحَ ہ:
کو مائل کرنا، جھکانا۔۔۔ الیه: کی طرف مائل ہونا،
جھکنا۔الجِنح: پناہ، کنارہ۔جِنحُ الطریق: راستہ
کی ایک جانب۔الجَانِح جمع جَوَانِح: جانب۔کہا
جاتا ہے جَانِحُ البیت: گھر کی ایک جانب۔
الجَنَاح جمع اَجنُح و اَجنِحَة: پرندے کا بازو۔
(اسی سے ہے انا فی جناح فلان: میں فلاں شخص
کے سایہ عاطفت میں ہوں)، کنارہ۔الجَوَانِح
واحد جَانِحة (ع ا): پسلیاں۔
۲۔جَنَحَ جُنُوحًا السفینةُ: کشتی کا تلے پانی میں
پہنچ کر زمین سے لگ جانا۔۔۔ جَنحًا الطائرُ:
پرندے کے بازو پر مارنا۔جَنَّحَ ہ: کو بازو بنانا۔
الجَنَاح جمع اَجنُح و اَجنِحَة (ع ا): پرندے کے
پر۔(کہتے ہیں رکبوا جَنَاحَی الطائر: وہ اپنے
وطن کو چھوڑ گئے۔رکب جَنَاحَی النعامة: اس نے
اس معاملہ میں بڑی کوشش اور عجلت سے کام لیا ہو
مَقصُوصُ الجَنَاح: وہ عاجز اور ناکارہ ہے)۔
جمع اَجنُح من الانسان: انسان کا ہاتھ، بغل، بازو
اور پہلو۔خواتُ الجناحین (ح): مکھیوں کی قسم کے
حشرات الارض۔اس کی اقسام میں سے مستقیمات
الاجنحه، مُغمَلَة الاجنحه اور نصفیة الاجنحه
ہیں۔الجَنَاحِیَة (ز): خشک پھل جس کا خول لمبے
باریک پر کی طرح پھیلا ہو۔اسی سے زرد پھولوں اور
خاردار پتوں والے بڑے درخت کا پھل ہے۔
۳۔جَنَحَ جُنُوحًا اللیلُ: رات کا آجانا۔الجنح و
الجُنح من اللیل: رات کا ایک حصہ۔الجُنَاح:
چیز کا ایک حصہ۔الجَنَاح جمع اَجنُح و اَجنِحَة: چیز
کا ایک حصہ۔
۴۔جَنَّحَ الرجلَ: کی طرف گناہ کی نسبت کرنا۔الجُنَاح:
گناہ۔اسی سے ہے لا جناحَ علیكَ: تمہارا کوئی
گناہ نہیں۔

○ جَنَحَ جُنُوحًا ل/الی: کی طرف مائل ہونا، کی
طرف میلان ہونا، کی طرف رغبت ہونا، جھکنا۔۔۔ الی:
کا سہارا لینا، کا رخ کرنا، سے جا ملنا، کو ملانا، سے تعلق
رکھنا۔۔۔ علی/الی: کشتی کا ساحل پر چڑھ جانا۔
۔۔۔ عن: سے جدا ہونا، سے ہٹنا، منحرف ہونا، تجاوز کرنا،
انحراف کرنا۔جَنَّحَ ہ: کو پر مہیا کرنا، کو پر یا بازو دینا۔
اَجنَحَ الی/ل: کی طرف مائل ہونا، کی طرف میلان
ہونا، رغبت ہونا، جھکنا، کا سہارا لینا، کا رخ کرنا، کی طر
ف توجہ کرنا۔۔۔ کشتی کا ساحل پر چڑھ جانا۔جِنح:
جانب۔جُنح و جِنح: تاریکی، دھندلکا۔فی جنح
اللیل: رات کی تاریکی میں، رات کے پردے میں۔
بینَ جُنحَیِ الکرَی: رات کو جب ہر شخص سویا ہوا
ہو۔جُنحه جمع جُنَح: چھوٹا جرم (سنگین جرم، جنایہ
سے کم اور خلاف ورزی سے بڑھ کر)۔جَنَاح جمع
اَجنِحَة و اَجنُح: (پرندہ، ہوائی جہاز، عمارت، فوج
کا) کا بازو، جانب، پہلو، رخ، طرف۔انا فی
جناحه: میں اس کی حفاظت میں ہوں۔علی جناح
الاثیر: ایتھر کی لہروں پر، لاسلکی کے ذریعے۔علی
جناح السُرعة: پروں کی عجلت سے۔جُنَاح:
چھوٹی غلطی، گناہ۔لاجناحَ علیه ان: اگر وہ۔۔۔۔۔ تو
اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا، اسکے خلاف میری رائے
قائم نہیں کی جائے گی، وہ مجرم نہیں گردانا جائے گا۔
اَجنَح إلی: کی طرف زیادہ مائل، راغب جَنُوح
إلی: کی طرف مائل، میلان رکھنے والا۔الجُنُوح
میلان، رجحان، رغبت، الی (کی طرف) جَانِح
پہلو، جانب، رخ، طرف، بازو، (فوج وغیرہ کا)
جَانِحة جمع جَوَانِح: پسلی (جمع جوانح)، دل،
روح، سینہ۔بینَ جَوَانِحی: میرے سینہ میں، دل
میں۔طَفَرَت جَوَانِحُها: وہ خوشی سے جوش میں
آگئی، وہ خوشی سے کانپنے لگی۔مُجَنَّح: پردار، [illegible]

جند: اجنَدَ الجُنُودَ: فوج جمع کرنا۔کہا جاتا ہے:
جُنُودٌ مُجَنَّدَة: جمع شدہ لشکر۔جیسے کہا جاتا ہے
اُلوفٌ مُؤلَّفَة: (ہزاروں ہی ہزاروں)۔تَجَنَّدَ:
فوجی سپاہی ہونا، لشکر مہیا کرنا۔۔۔ للامر: کسی کام
کے لئے فارغ ہونا۔الجُند جمع اَجناد و جُنُود:
واحد جُندِیّ: لشکر، فوج۔التجنید: لشکر یا فوج
بھرتی کرنا یا جمع کرنا۔التجنید الإجباریّ: جبری
فوجی بھرتی۔
۲۔الجُند جمع اَجناد: شہر۔اَجنادُ الشام: دمشق۔
حِمص و قِنَّسرِین: اردن، فلسطین۔الجَنَد: سخت
زمین، مٹی سے مشابہ پتھر۔
۳۔جَندَرَ الکتابَ: کتاب کے مٹے ہوئے حصہ۔قلم
پھیر کر حروف کو ابھارنا۔الجندار جمع جَنَادِرة: [illegible]
فوج، باڈی گارڈ (فارسی لفظ)۔
۴۔الجُندُب و الجُندَب جمع جَنَادِب (ح): ایک قسم کی
ٹڈی جسے عام لوگ قبوط کہتے ہیں۔
۵۔جَندَلَ ہ: کو پچھاڑنا۔الجَندَل واحد جَندَلَة جمع
جَنَادِل: بڑی چٹان۔

○ جَنَّدَہ: کو فوج میں بھرتی کرنا، جبری بھرتی کرنا، جبری
بھرتی کے حکم کے تحت بلانا، کو فوج کے خاص دستہ کے
لئے چننا۔۔۔ ہ علی: (فوج) کو کے خلاف حرکت
میں لانا۔تَجَنَّدَ: فوج کے خاص دستہ کے لئے چنا
جانا، جبری بھرتی کیا جانا، فوجی خدمت کے لئے بلایا
جانا۔جُند (مذکر و مونث) جمع جُنُود و اَجناد:
فوج کے سپاہی، فوج۔جُندُ الخلاص: مُکتی
فوج۔جُندِیّ جمع جُنُود: فوجی سپاہی، سپاہی کے
درجے کا فوجی۔جُندِیٌّ اوّل: درجہ اول کا فوجی
سپاہی۔جندی مُستَجَدّ: رنگروٹ۔الجندی
المَجهُول: گمنام سپاہی۔جُندِیَّة: فوجی معاملات،
فوجی امور، فوج، لشکر، فوجی خدمت، فوجی ملازمت۔
تَجنِید: فوجی بھرتی، فوج میں جبری بھرتی، نئی بھرتی،
فوجی دستہ، جنگ کے لئے فوج کی تیاری۔التجنید
الاجباری: جبری فوجی بھرتی۔جبری بھرتی کا قانون،
جبری فوجی خدمت۔مُتَجَنِّد: فوجی خدمت۔مُجَنَّد:
رنگروٹ، نیا فوجی سپاہی۔

○ جِندارِیّ: علم بردار، نشان بردار، سالار، قائد،
کارنٹ۔

○ جُنْدُب جمع جَنَادِب: جھینگر۔

○ جَــنْـدَرَ ہ: میلے کپڑے مشین میں نچوڑنا اور دھلے ہوئے کپڑوں پر استری کرنا۔ جَنْدَرَة: میلے کپڑوں کو مشین میں نچوڑنا اور دھلے ہوئے کپڑے استری کرنا، شکنجہ، گھماؤ مشین۔

○ جَنْدَرْمَة: مسلح پولیس۔ جَنْدَرِمی: (فرانسیسی فوج کا) مسلح سپاہی۔

○ جُنْدُفْلیَ: کستورا مچھلیاں۔

○ جَنْدَلَ: کو زمین پر پٹکنا، گرانا، پچھاڑنا۔ جَنْدَل جمع جَنَادِل پتھر جمع جَنَادِل: آبشار۔

○ جُنْدُول جمع جَنَادِیل: گنڈولی (ایک قسم کی کشتی چپٹے پیندے کی)۔

○ جِنْرَال و جِنِرال: جرنیل، سپہ سالار، قائد۔

جنز: ۱۔جَنَزَ -جَنْزًا و جَنَّزَ ہ: کو چھپانا، جمع کرنا۔

۲۔جُنِزَ: مر کر تابوت میں رکھا جانا۔ جَنَّزَ المیتَ: میت کو تابوت میں رکھنا۔ ـــ الکاهنُ المیتَ: پادری کا میت کی نماز جنازہ پڑھنا، کے لئے دعائے خیر کرنا۔ الجَنّاز عند المسیحیین: میت کے لئے دعائے خیر۔ الجَنَازَة و الجِنازَة جمع جَنَائِز: میت کا تابوت، میت کے جنازہ میں شریک ہونے والے لوگ، میت۔ مجلس ماتم، میت کی موت سے اسکی تدفین تک)۔ الجَنَائِزِیّ: مردوں کے آگے آگے پڑھنے والا۔

۳۔الجنزار و الجُنْزِیر: تانبے کا زنگار (فارسی لفظ)۔ الجَنْزِیر: زنجیر (فارسی لفظ)۔

○ جَــنَّـزَ ہ: مرحوم کے لئے نماز جنازہ پڑھنا، کی تجہیز و تکفین کرنا۔ جِنَازَة و جَنَازَہ جمع جنازات و جنائِز: دعائے مغفرت، مرحومین کو سکون دینے کی دعا، نوحہ، تجہیز و تکفین کی رسوم، ماتمی جلوس، جنازہ۔

○ جَنْزَبِیل: زنجبیل، ادرک، سونٹھ۔

○ جَنْزَرَ (بمعنی زَنْجَرَ): تانبے کے زنگار سے ڈھکنا یا ڈھک جانا، زنگار آلود ہونا۔ جنزار بمعنی زنجار: تانبے کا زنگار، کساؤ۔

○ جُنْزِیر (زنجیر) جمع جنازِیر: زنجیر، (ٹینک کے پہیے وغیرہ کی) لیک یا نشان، سادہ پیمائش linear measure۔ طارة جنزیر: نشان والا گراری کا دندانہ، گراری دار پہیہ۔ مُجَنْزَر: نشان ڈالنے والا (پہیہ، گاڑی)۔

جنس: ۱۔جَنَسَ -جَنْسًا التمرُ: سب کھجوروں کا پک جانا۔ جَنَّسَ ہ بہ: کو اس جیسا بنانا۔ ـــ ہ بِجِنْسِیَة بلد من البُلدان: کو کسی ملک کی جنسیت دینا۔ جَانَسَ جِنَاسًا و مُجانَسَةً ہ: کا مشابہ ہونا، ہم جنس ہونا۔ اسی سے ہے: فلانٌ یجانس البهائم: فلاں شخص چوپاؤں کے مشابہ ہے یعنی ان کی طرح عقل و تمیز نہیں رکھتا۔ تَجانَسا: باہم، ہم جنس ہونا۔ اسی سے ہے: مع التجانس التآنسُ: ہم جنس ہونے سے ہی انسیت پیدا ہوتی ہے۔ الجِنس جمع أَجْناس: مختلف انواع پر صادق آنے والی ماہیت جیسے الانسان اور گھوڑے میں حیوانیت کی جنس۔ چیز کی ہر قسم چنانچہ مثلاً الابل چوپاؤں کی جنس ہے۔ الجنیس: اپنی جنس میں اصل، اپنی قوم میں شریف۔ الجِنَاس فی البدیع: علم بدیع کی اصطلاح میں: دو لفظوں کا کلی طور پر یا جزوی طور پر مشابہ ہونا۔ جیسے دیکھنے والی آنکھ اور پانی کے چشمہ میں (یہ دونوں معنی لفظ عین کے ہیں) اور ساہ و ساہر میں (ساہ کا معنی غافل اور ساہر کا معنی ہوشیار ہے) ساہ اور ساہر جزوی طور پر مشابہ ہیں۔ الجِنسِیَّة: جنس کی حالت یا ماہیت جیسے الجنسیة اللُبنانیه: لبنانی جنسیت۔

۲۔جَنِسَ -جَنَسًا الماءُ و نحوہ: پانی کا جم جانا۔ الجَنَس: جما ہوا پانی۔

○ جَــنَّـس ہ: کو ہم شکل بنانا، مشابہ بنانا، ملتا جلتا بنانا، مطابق اور مانند بنانا۔ ـــ ہ: کو اپنے میں سمو لینا، کو اپنی قومیت دینا۔ ـــ ہ: کو درجہ وار کرنا، کی قسم بندی کرنا، کی درجہ بندی کرنا، جنسوں میں تقسیم کرنا، جنس وار تیار کرنا۔

جَانَس ہ/ ہ: کا قریبی ہونا، سے ملتا جلتا ہونا، سے تعلق رکھنا، کے مشابہ ہونا، کی قسم یا ساخت کا ہونا، کے مانند ہونا، سے مشابہت رکھنا، کا ہم شکل ہونا۔ تَجَنَّس ب: کی شہریت حاصل کرنا، کے حقوق شہریت یا قومیت دیا جانا۔ تَجَانَسَ: باہم سگا، رشتہ دار، قرابت دار یا ناطے دار ہونا، متعلق ہونا، ایک جیسی قسم یا ساخت کا ہونا۔ متجانس یا باہم قسم ہونا۔ جنس جمع اجناس: قسم، جنس، نوع، نسل، جنس (نَقد کا الٹ) مختلف چیزوں کا مجموعہ، درجہ، طبقہ، زمرہ، صنف، جنس (مرد و عورت کی)، جنس (تذکیر و تانیث)، قوم۔ اسم الجنس: اسم جمع۔ الجنس البشری: نوع انسانی۔ ابناء جنسا: ہمارا ہم قبیلہ۔ هو مصری الجِنس: وہ مصری قومیت کا ہے۔ الجنس اللطیف: صنف نازک۔ الجنس الخشن: صنف کرخت، جنس ذکور، مرد۔ جِنسِیّ: عام، کلی، جنسی، صنفی، نسلی۔ لاجِنسِیّ: لاجنس، نر و مادہ کے فرق کے بغیر، جنس یا جنسی عضو کے بغیر، جنسی تعلقات کے بغیر۔ جِنسِیَّة جمع جِنسِیّات: قومیت، شہریت، ـــ: قوم میں داخل کرنا، قومیت عطا کرنا، رعایت لفظی۔ جِناس: رعایت لفظی، ہم آوازی، ہم آہنگی، قافیہ بندی، یکسانی، مشابہت۔ مُجَانَسَة: رشتہ داری، خونی رشتہ، برداری، قرابت، روحانی رشتہ، لگاؤ، تعلق نسبت، چاہ، میلان، اُنس، کشش، مماثلت، مشابہت، یکسانیت۔ تجنس: شہریت کا حصول، قومیت کے حقوق دینا، اپنانا۔ تَجَانُس: ہم رنگی، ہم نوعی، ہم جنسی، مشابہت، مماثلت، یکسانیت۔ مُجانِس: مانند، مشابہ، ملتا جلتا، مثل، مطابق، سا، ویسا ہی، مماثل، متعلق، ہم جنس، ایک ذات کا، ہم قسم، یکساں۔ مُتَجَنِّس: حقوق شہریت، عطا کردہ، حقوق قومیت دیا ہوا۔ مُتجانِس: سگا، رشتہ دار، قرابت دار، ناطے دار، ملتا جلتا، یکساں، مشابہ، ہم شکل، ہم قسم و ہم ساخت و ہم طبیعت، ہم جنس۔

جنش: جَنَشَ -جُنُشًا الیه: تک ایک دم پہنچنا، کے پاس آنا۔ ـــ منه: سے گھبرانا۔ ـــ جَنُشًا المکانُ: جگہ کا خشک ہونا، قحط زدہ ہونا۔

جنص: جَنَّصَ: خوف سے بھاگ جانا۔ ـــ بَصَرَہ: گھورنا، تیز نظر ڈالنا۔ ـــ الطریقُ بالناس: لوگوں کی وجہ سے راستہ کا تنگ ہو جانا۔

جنط: الجنطیان (ن) و جنطیانا: پہاڑی علاقوں میں اگنے والا نیلے پھولوں والا پودا۔

جنف: جَنَفَ -جُنُوفًا و جَنِفَ -جَنَفًا عن الطریق: راستہ سے الگ ہونا، ہٹ جانا۔ و اَجْنَفَ فی وصیته: اپنی وصیت میں ظلم کرنا۔ صفت: جَنِفٌ و اَجْنَف۔ جَانَفَ جنافًا اهلهٗ: غصہ میں آ کر اپنے اہل و عیال سے قطع تعلق کر لینا۔ تَجَانَفَ عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا۔ ـــ لِلإثم: گناہ کی طرف مائل ہونا۔ الجَنَف: ظلم، عدل و حق سے تجاوز۔ المجْنَف: فطرۂ حق سے پھرا ہوا۔ الاَجْنَف مونث جَنْفَاء جمع جُنْف: کبڑا، کوزہ پشت۔ التجانُف (ف ح): تصویر وغیرہ کے اجزاء کا ایک دوسرے سے بالترتیب ملا نہ رہنا۔ (اسی کا الٹ التراصف ہے)۔

○ تَجَانَفَ من: سے ہٹنا، تجاوز کرنا۔ ـــ إلی بال: کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔

○ جنیف: جنیوا (ایک شہر کا نام)۔

○ جُنْفَاص و جُنْفَیص: ٹاٹ، بوریا۔

جنق: جَنَقَ -جَنْقًا و جَنَّقَ الحجرَ: پتھر کو گوپھن (منجنیق) سے پھینکنا۔ المَنْجَنِیق جمع مجانِق و مجانِیق و منجنیقات (ا ع): گوپھن، فلاخن، ایک مشین جس کے ذریعے لڑائی میں پتھر پھینکے جاتے ہیں، (یونانی لفظ)۔

جنك: الجُنُك جمع جُنُوك (مو): ایک قسم کا باجا (فارسی لفظ)۔

○ جُنك جمع جُنُوك: چنگ، بین، سارنگی، بربط۔

○ جَنُوا: شمال مغربی اٹلی کی بحری بندرگاہ۔

جنی: ا۔جَنَی ۔جِنَایَۃً: گناہ کرنا۔صفت جان جمع جُنَاۃ و اَجْنَاء و جُنَّاء مونث جَانِیَہ جمع جَوَانٍ و جانیات۔ ۔ الذنبَ علیہ: کے خلاف جارحانہ عمل کرنا۔جَانَی محاناۃً و تَجَنَّی علیہ: کو نا کردہ گناہ سے متہم کرنا۔الجَنِیَّۃ: گناہ، جرم، قصور۔

۲۔جَنَی ۔جَنًیا و جَنَیً الثمرَ: درخت سے پھل چننا۔ کہا جاتا ہے جَنَی الثمرۃ لہ و جَنَاہ اِیَّاھا: اس نے پھل کو درخت سے اس کے لئے توڑا۔ ۔۔ جَنَیا الذھبَ: سونے کو اس کی کان سے نکالنا۔اَجْنَی الشجرُ: درخت کا پکے ہوئے پھل لانا۔ ۔۔ ت الارضُ: زمین کا زیادہ پھل والی ہونا، زرخیز ہونا۔ تَجَنَّی الثمرَ: پھل چننا، توڑنا۔اِجْتَنَی ماءَ المطرِ: گھاٹ پر آ کر پانی پینا۔ ۔۔ الثمرَ: پھل چننا، توڑنا۔الجَنَی جمع اَجناء و اَجْنٍ: چنا ہوا یا توڑا ہوا پھل، شہد، کان سے نکالا ہوا سونا۔جنی الارض: گھاس، کھمبیاں جن کی جڑیں کھانے میں ملائی جاتی ہیں۔ثَمَرٌ جَنِیٌّ: تازہ اور اس وقت توڑا ہوا پھل۔ المَجْنَی: (مصدر میم) جمع مَجَان: وہ جگہ جہاں سے پھل چنا جائے، جس سے پھل توڑا جائے جیسے درخت وغیرہ۔الجُنَاۃ: ہر چنی ہوئی چیز۔

۳۔الجَنِیَّۃ: ریشم کا کپڑا۔

○ جَنَی ۔جَنْیًا ہ: کوئی چیز چننا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، کھیت کاٹنا، پیداوار جمع کرنا یا ذخیرہ کرنا، فصل کاٹنا، غلہ جمع کرنا، کئے کا پھل پانا، کو جیب یا تھیلی میں ڈالنا، سے ڈھیروں کمانا۔ ۔ ہ من: سے نفع اٹھانا۔ ۔ ہ: (نفع فائدہ) حاصل کرنا، (برا نقصان، سزا) مول لینا، اٹھانا، کا باعث بننا۔ جنایۃً علی: پر انتہائی ظلم کرنا، کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کے خلاف ارتکاب جرم یا گناہ کرنا۔ ۔ ہ علی: کو (تکلیف) پہنچانا۔ ۔ علی: کو نقصان پہنچانا۔تَجَنَّی علی: پر جرم کا الزام لگانا، کو ملزم قرار دینا، کو جرم سے متہم کرنا، پر الزام دھرنا، کو الزام دینا، قصوروار ٹھہرانا۔ ۔ کمینگی کرنا۔اِجْتَنَی ہ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، فصل کاٹنا۔جَنْی: فصل، فصل کی کٹائی۔جَنًی: پھل (جمع) جِنَایَۃ جمع جنایات: جرم کا ارتکاب، سنگین جرم، مستوجب قتل جرم۔ محکمۃ الجنایات: عدالت فوجداری۔جِنائی: مجرمانہ۔محکمۃ جنائیۃ: عدالت فوجداری۔ القانون الجنائی: تعزیری قانون۔مَجْنًی جمع مَجَان: چنی ہوئی یا کاٹی ہوئی چیز، فصل، نفع یا فائدہ کا سرچشمہ۔تَجَنٍّ علی: پر اتہام، الزام، کو ملزم قرار دینا، عمل کا اوسط طریقہ، بے ایمانی کا لین دین۔جان جمع جُنَاۃ: مجرم، گنہگار، قصوروار۔مَجْنِی علیہ: جس کو نقصان پہنچایا گیا، زخمی، ستم زدہ شا کی فریق، جرم کا شکار۔

○ جنیف: جنیوا (ایک فرانسیسی شہر کا نام)

○ جِنَیہ و جُنَیہ جمع جنیہات: پاؤنڈ، پونڈ۔جنیہ انجلیزی (استرلینی): انگریزی پونڈ، برطانوی پونڈ۔جنیہ مصری: مصری پونڈ (اس کا مخفف ج م ہے)۔

جھۃ: دیکھو وجہ۔

جھب: ا۔الجِھبِذ جمع جَھَابِذَۃ: نقاد، کھرے کھوٹے میں فرق وغیرہ کرنے والا (فارسی لفظ)۔

۲۔الجُھْبُر (ح): شیرنی۔

○ جَھْبَذ جمع جَھَابِذَہ: خداداد تنقیدی ذہن والا، بڑا عالم، منور، تابان، نامی گرامی، تیز طبع، ذہین، تیز فہم، ہوشیار، سیانا، عاقل۔

جھج: ا۔جَھْجَہَ بالسبع: درندہ کو روکنے کے لئے للکارنا۔تَجَھْجَہَ عنہ: سے باز رہنا، رک جانا۔ المُجَھْجَہ: شیر۔

۲۔جَھْجَہَ الضوءُ: صبح کا روشن ہونا، (سریانی زبان کا عوام میں مستعمل لفظ)۔

جھد: جَھَدَ ۔جَھْدًا فی الأمر: ۔ کسی کام میں بہت کوشش کرنا۔ ۔ ہ المرضُ: بیماری کا کسی کو لاغر و دبلا کر دینا۔جَھَدَ و اَجْھَدَ الدابۃَ: جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔جَھِدَ: پوری کوشش کرنا، غمگین ہونا، لاغر ہونا۔جُھِدَ ۔جَھَدًا عیشُہُ: کی زندگی کا مکدر ہونا، گزران مشکل ہونا۔اَجْھَدَ علینا العدوُّ: دشمن کا ہم سے دشمنی میں پوری کوشش کرنا۔ اَجْھَدَ فی الامر: کسی معاملہ میں احتیاط کرنا۔ ۔۔ الأمرُ لِزیدٍ: زید کے لئے کام ممکن ہونا۔جَاھَدَ مُجَاھَدَۃً و جِھَادًا: پوری طاقت صرف کرنا۔کہا جاتا ہے جَاھِدُوا فی سبیل اللّٰہ حقَّ جھادہ: اللہ کے راستہ میں کوشش کا حق ادا کرو۔ ۔ العدوَّ: دین کی حفاظت کے لئے دشمن سے جنگ کرنا، اصل میں معنی یہ ہے کہ (ان میں سے) ہر ایک کا اپنے دشمن کو پسپائی پر مجبور کرنے میں پوری کوشش کرنا ہے۔تَجَاھَدَ و اِجْتَھَدَ فی الأَمر: کسی امر میں کوشش کرتے ہوئے پوری طاقت خرچ کر دینا۔اِسْتَجْھَدَ فی الأمر: کسی امر پر غور کرنا اور چوکس ہو جانا۔الجُھْد و الجَھد و المَجْھُود: طاقت، استطاعت (کہا جاتا ہے بَذَلَ جھدہ و مَجْھُودَہُ: اس نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی)، مشقت۔کہا جاتا ہے اقسموا باللّٰہ جَھْدًا اَیْمَانِھِم: انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم میں حتی المقدور کوشش کی۔الجَھْدان: وہ شخص جس کو مشقت پہنچی ہو۔الجِھاد (مص): دین کی حفاظت کی خاطر جنگ۔الجَاھِد (فا): بے خوابی والا۔کہا جاتا ہے: جَھْدٌ جَاھِدٌ: بڑی جدوجہد۔لیلٌ لائِلٌ: تاریک رات۔شِعْرٌ شَاعِرٌ: وجدانی شعر، عمدہ شعر۔ الجُھَادَی: انتہاء، آخری حد۔کہا جاتا ہے جُھَادَاكَ ان تفعل کذا: تم زیادہ سے زیادہ ایسا کر سکتے ہو، ابتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کے بعد مصدر سے مُؤَوَّل جملہ اس کی خبر ہے۔الجُھَیْدَی: جدوجہد، کوشش، پوری کوشش۔کہا جاتا ہے لَابلُغَنَّ جُھَیْدَایَ فی الأمر: میں اس معاملہ میں اپنی کوشش کو انتہاء تک پہنچا دوں گا۔

۲۔جَھَدَ ۔جَھْدًا و اَجْھَدَ الطعامَ: کھانے کی خواہش کرنا۔الجَھِید: عمدہ چراگاہ۔مرعی جھید: عمدہ چراگاہ۔

۳۔جَھَدَ ۔جَھْدًا بالرجل: کا امتحان لینا۔

۴۔جَھَدَ ۔جَھْدًا اللبنَ: دودھ کا تمام مکھن نکال لینا۔ اَجْھَدَ المالَ: مال بکھیرنا، فنا کر دینا۔

۵۔أَجْھَدَ الحقُّ: حق کا ظاہر ہونا۔ ۔ فیہ الشیبُ: میں بڑھاپا اچھی طرح ظاہر ہو جانا۔

۶۔الجَھَاد جمع جُھُد: سخت زمین، بے برگ و گیاہ زمین۔

○ جَھَدَ ۔جَھْدًا: کوشش کرنا، سخت کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، جان مارنا، بڑی محنت اور کوشش سے (کوئی کام) کرنا، خاص کوشش کرنا۔ ۔ ہ: پر بہت زیادہ کام ڈالنا، پر بہت زیادہ ٹیکس لگانا، کو تھکا دینا۔جَاھَدَ فی سبیل الشیء: کے لئے کوشش کرنا، سخت کوشش کرنا، لڑنا۔ ۔۔: کافروں کے خلاف لڑنا۔اَجْھَدَ ہ: کی کوشش کرنا، کی سخت کوشش کرنا۔ ۔۔ ہ: کو تھکا دینا، تکلیف دینا، زحمت دینا۔اَجْھَدَ نفسَہ فی: میں انتہائی کوشش کرنا، کے لئے اپنے اختیارات سے بڑھ کر مدد کرنا۔اَجْھَدَ فکرَہ فی: صرف وہی کرنا، اپنی ساری توجہ اور طاقت کے حصول پر لگا دینا، تندہی سے کوئی کام کرنا۔اجتھد فی: کو کرنے کے لئے خاص کوشش کرنا، سخت مشقت کرنا، کسی قانونی یا دینی مسئلہ میں آزادرائے وضع کرنا۔جَھْد جمع جُھُود:

حد سے زیادہ بوجھ، مشقت، سعی، جدوجہد، تندہی، سرگرمی، کوشش۔ ـ فی: کے لئے بڑی محنت اور کوشش، تکلیف بے آرامی، زحمت، وولٹیج voltage۔ جَهَدَ جُهْدَه اور عمل (حَاوَلَ) جهدَه: مقدور بھر کوشش کرنا، ہر سمجھ میں آنے والی کوشش کر ڈالنا۔ بِـجَهْدٍ جَهِيد: بڑی مشکل سے، محنت طلب کوششوں سے۔ بَعْدَ جُهْدٍ جَهِيد: بڑی مصیبت اور تکلیف کے بعد۔ جهدٌ عالٍ: حددرجہ کا تناؤ۔ جُهُد: حد سے زیادہ بوجھ، مشقت۔ جُهْدَ: کی حد تک۔ جُهْدَ الطاقة: جہاں تک ممکن ہے، جس قدر ممکن (ہے)۔ جُهْدَ طاقتِهِ: جتنا وہ کرسکتا ہے، اس کی قابلیتوں کی حد تک۔ جُهْدَ إمكانه: جتنا وہ کرسکتا ہے، اس کی قابلیتوں کی حد تک۔ جُهْدَ ما: جس قدر، کی حدود تک۔ جُهْدِی: جہاں تک میرا بس چلے جہاں تک میں کرسکتا ہوں۔ جهاد: لڑائی، جنگ، جہاد، کفار کے خلاف جنگ، ایک مذہبی فریضہ کے طور پر۔ جهادی: جنگی، فوجی۔ مُجَاهَدَة: لڑائی، جنگ۔ إجهاد: مشقت، سعی، جدوجہد، تندہی، سرگرمی، ناقابل برداشت محنت لینا، بہت زیادہ محصول لگانا، غیر معمولی زور ڈالنا۔ إجتهاد: کوشش، مشقت، سعی، جدوجہد، تندہی، سرگرمی، تکلیف، مصروفیت، مشغولیت، کارکردگی، کسی قانونی یا دینی مسئلہ میں آزاد فیصلہ، جو چار اصولوں کی توضیح اور استعمال کی بنیاد پر کیا گیا ہو۔ مَجْهُود جمع مَجْهُودَات: کوشش، سعی، جدوجہد، دوڑ دھوپ، محنت، مشقت، تندہی، سرگرمی، تکلیف کام، تناؤ، کھچاؤ، کشاکش، برقی قوت کی مقدار، وولٹیج (voltage)۔ بَذَلَ مَجْهُودَاتِه: ہر کوشش کرنا، انتہائی کوشش کرنا۔ مُجَاهِد جمع مُجاهِدُون: لڑنے والا، آزادی کی جدوجہد کرنے والا، جنگجو، نبرد آزما، سارجنٹ sargent۔ مُجْهِد: سرگرم، سخت محنتی، جفاکش، سخت گیر، صبر آزما، تکلیف دہ، تھکا دینے والا۔ مُجْهَد: تھکا ہوا، بہت زیادہ کام کی وجہ سے تھکا ہوا۔ مُجْتَهِد: محنتی، مستعد، جمع مُجْتَهِدُون: مجتہد، ماہر قانون جو قانونی اور دینی معاملات میں آزادانہ فیصلہ کرتا ہو اور یہ فیصلے چار اصولوں کی توضیح اور استعمال پر مبنی ہوں۔ اس کی ضد مُقَلِّد ہے۔

جهر: ۱۔ جَهَرَ ـَ جَهْراً و جِهَاراً الامرُ: معلوم ہونا، پھیلنا۔ ـ الشیءَ: کو کھولنا، کا اندازہ کرنا۔ ـ جَهْراً و جِهاراً و جَهْرَةً الامرَ و بالأمرِ: کا اعلان کرنا۔ جَاهَرَ مُجَاهَرَةً و جِهاراً ہ بالشیء: سے کو کھلم کھلا ظاہر کرنا۔ أَجْهَرَ الامرَ و به: کا اعلان کرنا۔ تَجَاهَرَ بالأمر: کو کھلے طور سے ظاہر کرنا۔ الجَهْر (مص): آپ کہتے ہیں: كَلَّمتُه جَهْراً و بالجَهْرِ: میں نے اس سے کھلے اور صاف الفاظ میں بات کی۔ الجَهِير: کہا جاتا ہے: هو عفيفُ السريرة والجهيرة: وہ ظاہر اور باطن کا پاکدامن ہے۔

۲۔ جَهَرَ ـَ جَهْراً و جِهَاراً بالقول: بات کو بلند آواز سے کہنا، اونچی آواز سے بات کرنا۔ ـ الصوتَ: آواز بلند کرنا۔ جَهُرَ ـُ جَهَارَةً الصوتُ: آواز کا بلند ہونا۔ صفت جَهِير و جَهِر۔ جَاهَرَ مُجَاهَرَةً و جِهَاراً بالقراءة: بلند آواز سے پڑھنا۔ اَجْهَر بالقراءة: بلند آواز سے پڑھنا۔ جَهُورُ الصوتِ جمع جُهُر: بلند اور قوی آواز والا۔ جَهِير: بلند۔ کہا جاتا ہے: كلام جهير: بلند آواز میں گفتگو۔ امرأة جَهِيرَة: بلند آواز والی عورت۔ الجَهْوَرِيّ: بلند۔ کہا جاتا ہے: صوتٌ جَهْوَرِيٌّ: بلند آواز۔ رجل جَهْوَرِيٌّ: بلند آواز والا مرد۔ المِجْهَر و المِجهَار: اونچی آواز سے باتیں کرنے کا عادی۔

۳۔ جَهَرَ ـَ جَهْراً و جِهَاراً ہ: کو دیکھنا۔ ـ الرجلَ: کو بے پردہ دیکھنا، آنکھوں میں بڑا معلوم ہونا، کی تعظیم کرنا۔ ـ و اجْتَهَرَ القومَ: لوگوں کو دیکھ کر زیادہ خیال کرنا۔ جَهُرَ ـُ جَهَارَةً الرجلُ: دیکھنے والے کی نظر میں ذی شان اور ذی عظمت ہونا۔ جَهِرَ ـَ جَهَراً ت العينُ: سورج سے آنکھوں کا خیرہ ہونا اور چندھیا جانا۔ اَجْهَر: جس کی آنکھ چندھیا گئی ہو۔ مونث جَهْراء جمع جُهْر (مذکر و مونث دونوں کی)۔ اِجْتَهَرَ الرجلَ: کو کھلم کھلا دیکھنا۔ ـ ہ: کو بڑا سمجھنا۔ الجَهْر و الجِهَار: اعلانیہ۔ آپ کہتے ہیں: لقيتُه جَهْراً او جِهَاراً: میں اس سے علی الاعلان ملا یا اعلانیہ طور پر ملا۔ المُجْهِر او المِجْهَار: خوردبین۔ المِجْهَر الكَهْرَبائی: برقی خوردبین، جو چیز کو لاکھ سے دو لاکھ گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے۔

۴۔ جَهَرَ ـَ جَهْراً و جِهَاراً الشیءَ: کا حسن اور شکل اچھا لگنا۔ اَجْهَرَ الرجلُ: خوبرو بچوں کا باپ ہونا۔ اِجْتَهَرَ الشیءُ فلاناً: چیز کا کسی کو اپنی ہیئت اور جمال سے حیرت میں ڈال دینا۔ الجُهْر: ہیئت حسن نظر۔ الجَهَارَة و الجُهُورَة: قدبت اور منظر کا حسن۔ الأَجْهَر: خوبصورت ہیئت والا۔ الجَهِير: خوبصورت۔

۵۔ جَهَرَ ـَ جَهْراً و جِهَاراً السقاءَ: مشکیزہ میں دودھ بلو کر مکھن نکالنا۔ الجَهِير من اللبن: دودھ جس میں پانی کی آمیزش نہ ہو۔

۶۔ جَهَرَ ـَ جَهْراً و جِهَاراً الارضَ: اجنبی ملک یا زمین میں چلنا۔ جَاهَرَ مُجَاهَرَةً و جِهَاراً القومَ بالأمر: کو کسی بات میں شکست دینے کی کوشش کرنا۔

۷۔ اَجْهَرَ الرجلُ: بھینگے بیٹے کا باپ ہونا۔

۸۔ اِجْتَهَرَ البئرَ: کنویں کو صاف کرنا۔

۹۔ الجَهْر: چوڑا ٹیلہ، زمانہ کا ایک حصہ۔ الجَهِير: بھلائی اور نیکی کے لائق۔

○ جَهَرَ ـَ جَهْراً و جِهَاراً: معلوم ہونا، پتہ چلنا، ظاہر ہونا، دکھائی دینا، نظر آنا۔ ـ ہ/ب: کا اعلان کرنا۔ ـ ب: کو علی الاعلان کہنا، کا باضابطہ اعلان کرنا۔ ـ ہ: آواز بلند کرنا۔ جَهُرَ ـُ جَهَارَةً: (آواز کا) بلند ہونا، صاف سنا جاسکنا۔ جَاهَرَ ب: کو کھلم کھلا کہنا، بیان کرنا، صاف صاف ظاہر کرنا، کا اظہار کرنا، کہنا، زبان سے نکالنا۔ جَهْر و جِهَار: اعلان عام، شہرت، تشہیر، کھلم کھلا، علی الاعلان اظہار۔ جَهْراً و جِهَاراً: کھلم کھلا، علی الاعلان اعلانیہ طور پر۔ جَهْرَةً: کھلم کھلا، علی الاعلان، اعلانیہ طور پر، کشادہ دلی سے، صاف دلی سے، کھلے بندوں، صاف گوئی سے۔ جَهْرِيّ: بدنام، رسوا، مشہور، عام۔ جَهِير: اونچی، بلند، (آواز، شور)۔ اَجْهَر: دن کا اندھا۔ اَجْهَر: زیادہ بلند، زیادہ مسموع۔ جُهُورِيّ: بلند (آواز)۔ مُجْهِر: بلند آواز (والا)۔ مِجْهَر جمع مَجَاهِر: خوردبین۔ مِجْهَرِيّ: دوربین کا، دوربینی۔ مِجْهَار: بلند آواز (والا)، لاؤڈ سپیکر۔ مُجَاهَرَة: صاف گوئی، حق گوئی، صاف دلی، (کسی کی بات کا) بےلاگ پن، غیر جانبداری۔

جهز: ۱۔ جَهَزَ ـَ جَهْزاً و أَجْهَزَ علی الجريح: زخمی کو مار کر اس کا کام تمام کردینا۔ الجَهِيز من الخيل: تیز رفتار گھوڑا۔ موتٌ جَهِيزٌ و مُجْهِزٌ: ناگہانی یا فوری موت۔

۲۔ جَهَّزَہ: کو تیار کرنا۔ ـ العروسَ: دلہن کے جہیز کا سامان تیار کرنا۔ ـ الميتَ: میت کے کفن دفن کا سامان کرنا۔ تَجَهَّزَ للسفر: سفر کے لوازمات لینا۔ ـ و اِجْهَازَّ للأمر: کسی کام کے لئے تیار ہونا۔ الجِهاز: مختلف اوزاروں سے مرکب آلہ۔ ـ الباعث و الجهاز المُرْسِل (ف): برقی اشارات بھیجنے کا آلہ۔ ـ والجَهاز جمع أَجْهِزَة و أَجْهِزات للبيت او للمسافر او للعروس: گھر، مسافر یا دلہن کی ضرورت کا سامان۔ ـ من جسم الانسان: جسم انسانی کے اعضاء جو کوئی خاص غرض کا کام کرتے ہیں جیسے اعضاء تنفس و ہضم۔ الجِهَازَة (ا ع): آتشیں اسلحہ کو حرکت دینے اور استعمال کرنے کو آسان کرنے کا وہ آلہ جو مختلف پرزوں پر مشتمل ہو۔

۴- جَهِيزَة: ایک عورت کا نام، ضرب المثل: قطعت جهيزةُ قولَ كلِّ خطيب: کی اصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند مقررین نے دو قبیلوں کے درمیان خون کے معاملہ میں صلح کرانے کے لئے تقریروں کا سلسلہ چھیڑ رکھا تھا اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنے میں جہیزہ نے آکر بتایا کہ مقتول کے ایک رشتہ دار نے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ یہ سنتے ہی لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا جو اوپر درج ہے۔ جس کا معنی ہے کہ اب گفتگو کی گنجائش نہیں رہی کیونکہ قاتل کے قتل کے بعد خون بہا اور اس کی قصاص کا سوال ہی نہیں رہا۔ الجَهْزاء: بلند زمین۔

○ جَهَزَ ـَ جَهْزًا على: زخمی کو ہلاک کر ڈالنا، (کسی پر) کاری ضرب لگانا۔ جَهَّزَ ہ: کو تیار کرنا، کا انتظام کرنا، کو مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ ـ ہ ب و ـ ہ ب: کو کوئی چیز مہیا کرنا، کو سے لیس کرنا، کو ساز و سامان مہیا کرنا، کو سے تیار کرنا۔ اَجْهَزَ على: زخمی کو ہلاک کر ڈالنا، (کسی پر) کاری ضرب لگانا، کو تباہ و برباد کر دینا، ختم کر دینا۔ تَجَهَّزَ: لیس ہونا، مہیا ہونا، فراہم ہونا، تیار ہونا۔ جَهاز (اس کا تلفظ جِهاز بھی ہے) جمع جَهازات و اَجْهِزَة: ساز و سامان، ساز و یراق، آلات، (کسی مقصد کا) لباس وغیرہ، گیئر gear، کسی خاص مقصد کے لئے مطلوب ساز و سامان، عروسی لباس، کل، آلہ، مشین، کا پرزہ، اوزار، ہتھیار، سامان، جو چیز لگائی جائے، نظام۔ جهازٌ لاسلكي: وائرلیس سیٹ، ریڈیو۔ جهاز راديو: ریڈیو (وصول کرنے کا سیٹ)۔ جهازٌ مُستَقبِلٌ و جَهازُ الاستقبال و جهازُ الالتقاط: رسیور (receiver)، ریسیونگ سیٹ receiving set (ریڈیو)۔ جهاز مُذِيعٌ و جهازُ الإرسال: ٹرانسمیٹر۔ جهاز تليفزيوني: ٹیلیوژن سیٹ۔ جهاز الحَفر: تیل کے کنویں پر نصب ڈھانچہ جو سوراخ کرنے کی مشین کو پکڑے رکھتا ہے، زمین میں سوراخ کرنے کا ساز و سامان۔ جهاز دَوْرِيٌّ: گردشی نظام، خون کی گردش کا نظام۔ جهاز لتسجيل الا هتزازات الارضية یا جهاز قياس الهزات الارضية: زلزلہ پیما، زلزلہ نگار۔ جهاز سِرّيٌّ: خفیہ تنظیم، زیر زمین تنظیم۔ جهاز الاستماع: آواز کی جگہ ڈھونڈ نکالنے کا آلہ۔ الجهاز العصبي: عصبی نظام۔ جهاز الهضم: نظام ہضم۔ تجهيز: ساز و سامان، ساز و یراق تیاری، فراہمی جمع تجهيزات: ساز و سامان، گیئر gear۔ تجهيزي: ابتدائی، تیاری کا، کالج کے لئے تیار کرنے والا (سکول)۔ جاهِز: تیار۔ سلے سلائے (کپڑے)، لیس، مہیا، فراہم شدہ۔ البسةٌ (ملبوساتٌ) جاهِزَةٌ: سلے سلائے کپڑے۔ مُجَهَّز ب: سے لیس، سے مسلح، جسے کوئی چیز مہیا کی گئی ہو، فراہم کی گئی ہو۔

جهش: ۱- جَهَشَ ـَ جَهْشًا و جُهُوشًا و جَهَشَانًا اليه: کے پاس روتے ہوئے یا روہانسا ہو کر پناہ لینا جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جَهِشَ ـَ جَهَشَانًا منه: سے ڈرنا یا بھاگنا۔ ـ جَهْشًا و جُهُوشًا و جَهَشَانًا اليه: بمعنی جَهَشَ۔ اَجْهَشَ اليه: بمعنی جَهَشَ۔ ـ بالبكاء: رونے کے لئے تیار ہونا۔ ـ ت النفسُ: رونے کا ارادہ کرنا۔ الجَهْشَة: آنسو۔

۲- أَجْهَشَ ہ: کو جلد کرانا۔ الجَهُوش: تیز رفتار۔

۳- الجَهْشَة و الجَاهِشَة: لوگوں کا گروہ۔

○ أَجْهَشَ: سِکی لینا، سسکیاں لینا یا بھرنا، اچانک سسکیاں لینے لگنا۔ أَجْهَشَ بالبكاء: روہانسا ہونا، آنسو بہانے کے قریب ہونا، آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرنا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگنا۔ جَهْشَة جمع جَهَشات: سِسکی، ہِچکی، آنسوؤں کا پھوٹ پڑنا۔ اِجهاش: آنسوؤں کا پھوٹ پڑنا۔

جهض: ۱- جَهَضَ ـَ جَهْضًا ہ: پر غالب آنا۔ ـ عن كذا: سے دور کرنا، منع کرنا۔ جاهَضَ ہ: کو باز رکھنا، سے جلدی کرانا۔ أَجْهَضَ فلانًا: کو پھسلانا۔ ـ ہ عن الأمر: کو سے دور کرنا، ہٹانا۔ ـ ہ عن مكانه: کو اس کی جگہ سے اٹھانا، الگ کرنا۔

۲- اَجْهَضَتِ المرأة: عورت کا اسقاط حمل کرنا۔ الجِهْض و المُجْهَض و الجَهِيض: وہ بچہ جو قبل از وقت رحم سے گر جائے۔ المِجهاض جمع مَجَاهِيض من الاناث: وہ عورت جس کا حمل گر جاتا ہو۔ الجُهاضة: حیوانات میں سے بوڑھی مادہ۔

۳- الجَاهِض مونث جاهِضَة جمع جَوَاهِض: تیز طبیعت (شخص)۔ الجُهُوضة و الجَهَاضَة: طبیعت کی تیزی۔

○ اَجْهَضَ: جھول نکلنا یا لگانا، بچے جننا (جانور کا)، عورت کا اسقاط حمل کرنا۔ أَجْهَضَتْ نفسَها: وہ اسقاط کی باعث بنی، اس کا اسقاط حمل ہوا۔ جِهْض: رحم مادر میں ضائع ہو جانے والا بچہ، اسقاط کا شکار ہونے والا بچہ۔ جهيض: بمعنی جهض۔ اِجهاض: اسقاط حمل۔

جهل: ۱- جَهِلَ ـَ جَهْلًا و جَهَالَةً: بیوقوف ہونا، بدتمیز ہونا، اکھڑ ہونا صفت: جاهل جمع جُهَّل و جُهَّال و جُهَلاءُ، و جُهْل و جُهُل و جَهَلَة۔ ـ عليه: کو نظر انداز کرنا، پر آنکھیں بند کر لینا، (حقیقت پر) التفات نہ کرنا، سے کسی تعلق کا انکار کرنا۔ جَاهَلَ ہ: سے گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا۔ اسی سے ہے: رايتُ منهما مُجاملةً ثم انقلبت مُجاهَلَةً: میں نے پہلے تو ان کی طرف سے تواضع اور شائستگی دیکھی پھر وہ تواضع اور شائستگی بدتمیزی میں تبدیل ہو گئی۔

۲- جَهِلَ جَهْلًا و جَهَالَةً: بے علم ہونا۔ ـ الحقَّ: حق ضائع کر دینا۔ جَهَّلَ ہ: کو جہالت سے متہم کرنا۔ تَجَاهَلَ: جاہل بننا۔ اِستَجْهَلَ ہ: کو جاہل سمجھنا، حقیر جاننا۔ الجَهْلَة: نادانی۔ الجَهُول جمع جُهُلٌ: جاہل، ناتجربہ کار۔ المَجْهَل جمع مَجَاهِل: جنگل جس میں کوئی راستہ نہ ہو، بیابان جس میں کوئی نشانات نہ ہوں۔ المَجَاهِل: کرہ ارض کی وہ جگہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئیں، اس کا واحد جَهْل (نادانی) ہے۔ جیسے محاسن جس کا واحد حسن ہے۔ اسی سے ہے: انا لنصفح عن مجاهل قومنا: ہم اپنی قوم کی نادانیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ المَجْهَلَة: بے علمی کا باعث، بے علمی کی ترغیب۔ المَجْهُول من الافعال: وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ ناقةٌ مجهولةٌ: اونٹنی جسے دوہا نہ گیا ہو یا اس پر کوئی داغ نشان نہ ہو۔ الجَاهِلِيَّة: نادانی کی حالت۔ اسلام سے قبل بلاد عرب میں رائج بت پرستی۔

۳- جَهِلَ ت القدرُ: ہانڈی کا بہت اُبلنا۔ اِستَجْهَلَتِ الريحُ الغصنَ: ہوا کا درخت کی ٹہنی کو ہلانا۔ المِجْهَل و المِجْهَلَة: کریلنی، انگارے ہلانے کی لکڑی۔

○ جَهِلَ ـَ جَهْلًا و جَهَالَةً: جاہل ہونا، بے خبر ہونا۔ ـ ب/ہ: کو نہ جاننا، سے ناواقف ہونا۔ ـ: بے وقوف ہونا، بے عقل ہونا، قوت استدلال سے محروم ہونا، غیر منطقی ہونا، بیہودہ، لغو یا مہمل ہونا۔ ـ على: سے احمقانہ طور پر پیش آنا۔ تَجَاهَلَ ہ: کو نظر انداز کرنا، سے کوئی تعلق رکھنے سے انکار کرنا، پر اپنی آنکھیں بند کر لینا، کسی حقیقت سے بے التفاتی کرنا۔ ـ: جاہل یا بے خبر بننا، ایسا بن بیٹھنا جیسے اسے کوئی پتہ نہیں۔ اِستَجْهَلَ ہ: کو جاہل، بے خبر، یا بیوقوف خیال کرنا یا سمجھنا۔ جَهْل و جَهَالة: جہالت، بے خبری، بے علمی، ناواقفی، بے وقوفی، حماقت، احمقانہ حرکت۔ ـ عن جَهْلٍ: جہالت، بے خبری یا ناواقفی سے۔ جَهْل

جاہل، بے خبر، بے وقوف، احمق۔ مَجْهَل جمع مَجَاهِل: نامعلوم علاقہ، علاقہ جس کا کھوج نہ لگایا گیا ہو۔ مَجَاهِل افريقيا: نامعلوم افریقہ۔ تَجْهِيل: تضحیک، تردید۔ تَجَاهُل نظر اندازی، بے التفاتی۔ جَاهِل جمع جَهَلَة و جُهَل و جُهَّال و جُهَلاءُ ب سے بے خبر، لاعلم جاہل، بے خبر، غیر تعلیم یافتہ، ان پڑھ، بے وقوف، احمق۔ جَاهِلِيّ: بت پرست، مظاہر پرست، غیر اہل کتاب، تاریک خیال آدمی، اسلام سے قبل زمانے کا۔ جَاهِلِيَّة: بے خبری، لاعلمی یا نادانی کی حالت، قبل از اسلام مظاہر پرستی، تاریک خیالی، بت پرستی۔ مَجْهُول: نامعلوم، بے نام، گمنام مجہول۔ مجهول الاسم: گمنام، بے نام جمع مَجَاهِيل: نامعلوم چیزیں۔ صيغة المَجْهُول: (فعل) مجہول۔ مَجْهُولِيَة: بے خبری، لاعلمی، نامعلوم فطرت۔

جہم: ۱۔ جَهُمَ ـُ جَهَامَةً و جُهُومَةً: تیوری چڑھانا، ترش رو ہونا صفت: جَهُم۔ جَهَمَ و جَهِمَ ـَ جَهْمًا و تَجَهَّمَ ہ و لهُ: سے ترش روئی سے پیش آنا۔ کہا جاتا ہے: تَجَهَّمَهُ أملُه: وہ اپنی آرزو امید کی تکمیل میں ناکام رہا۔ اِجْتَهَمَ: رات کے آخری چوتھائی حصہ میں داخل ہونا یا اس میں چلنا۔ الجُهْمَة و الجَهْمَة: رات کے آخری حصوں کا شروع۔

۲۔ أَجْهَمَ الجوُّ: آسمان پر بے بارش بادلوں کا چھا جانا۔ الجَهَام: پانی سے خالی بادل۔ الجَهُوم: عاجز، کمزور۔

۳۔ الجُهْمَة: بڑی دیگ۔

○ جَهُمَ ـُ جَهَامَةً و جُهُومَةً: تیوری چڑھانا۔ چیں بجبیں ہونا، خفگی کی نگاہ سے دیکھنا، گھورنا، گھر کنا، آنکھیں دکھانا، آنکھیں نیلی پیلی کرنا، قہر آلود نظروں سے دیکھنا۔ تَجَهَّمَ: بمعنی جَهُمَ۔ نیز تَجَهَّمَ ہ/ھ یا ل: کو خفگی سے دیکھنا، پر تیوری چڑھانا، کو افسردگی سے دیکھنا، سرد مہری سے دیکھنا، سختی سے دیکھنا۔ ــــ: (چہرے کا) تاریک ہونا، اداس ہونا، بے رونق ہونا، آزردہ ہونا، بیزار ہونا۔ جَهْم: خفا، آزردہ، بیزار، بدمزاج، تیرہ و تار، زود رنج، خفا خفا، روٹھا ہوا، اداس، ترش رو، بدخو، روکھا، اکل کھرا، لوگوں سے دور رہنے والا، تاریک، اداس، ملول، سونا، بے رونق (چہرہ)۔ جَهَامَة و جُهُومَة: سخت نگاہ، بیزار، خفا یا روٹھا ہوا اظہار، تاریکی، تیرگی، حزن، افسردگی، چھائی ہوئی خاموشی۔ جَهَام: بادل (جمع)۔

جہن: ۱۔ جَهَنَ ـُ جُهُونًا: قریب ہونا۔ الجَهْن: ترش روئی۔

۲۔ جَهَنَّم: دوزخ (غیر منصرف) عبرانی لفظ۔

○ جَهَنَّمِيّ: دوزخی، شیطانی، طاغوتی، جہنم کا، دوزخ کا (بول چال) کم بخت، منحوس، ناشدنی۔

جہی: ۱۔ جَهِيَ ـَ جَهًا البيتُ: گھر کا اجڑنا، ویران ہونا، صفت: جاهٍ۔ جَهِيَ الجرحَ: زخم کشادہ کرنا۔ أَجْهَى إِجْهَاءً البيتَ: گھر کو بے پردہ کرنا۔ ــــ الطريقُ: راستہ کا واضح ہونا۔ ــــ الطريقَ: راستہ کو واضح کرنا۔ ــ ت السماءُ: آسمان کے بادلوں کا چھٹ جانا۔ ــــ القومُ: لوگوں کے مطلع پر سکون ہونا، آسمان سے ابر ہونا، مطلع صاف ہونا۔ الأَجْهَى و المُجْهِي مؤنث جَهْوَاء من البيوت: بغیر چھت والا گھر۔ کہا جاتا ہے: خباءٌ مُجْهٍ: بے پردہ خیمہ۔ الأَجْهَى مونث جَهْوَاءُ: گنجا۔ بيتٌ جَهْوَانٌ: بے پردہ گھر۔ سماءٌ جَهْوَاء: کھلا آسمان۔

۲۔ جَاهَى مُجَاهَاةً فلانًا: کا فخر میں مقابلہ کرنا۔

۳۔ أَجْهَى عليه: سے بخل کرنا۔

جاب: ۱۔ جَابَ ـُ جَوْبًا و تَجْوَابًا البلادَ: ملک کو طے کرنا، عبور کرنا۔ اِجْتَابَ البلادَ: ملک کو طے کرنا، عبور کرنا۔ الجائِب (فا): مسافر۔ جائِبُ العين: شیر۔ الجائِبَة جمع جَوَائِب: پھیل جانے والی خبر، عام خبر۔ کہا جاتا ہے: هل عندك من جائبة خبر: کیا تمہارے پاس ایسی کوئی خبر ہے جو شہر در شہر چکر لگا رہی ہو۔ الجَوَّاب: جائب کا مبالغہ کا صیغہ، بہت گھومنے پھرنے والا۔ ہم کہتے ہیں: جَوَّابُ آفاقٍ: دور دراز ملکوں کا سفر کرنے والا۔ الجَوَّابه: بمعنی جَوَّاب: (تاء مبالغہ کی ہے)۔

۲۔ جَابَ ـُ جَوْبًا و تَجْوَابًا الصخرةَ: چٹان میں سوراخ کرنا۔ اِجْتَابَ الصخرةَ: چٹان میں سوراخ کرنا۔ ــ البئرَ: کنواں کھودنا۔ الجَوْبَة جمع جُوَب: گڑھا۔ المِجْوَاب: سوراخ کرنے یا پھاڑنے کا آلہ۔

۳۔ جَابَ ـُ جَوْبًا الثوبَ: کپڑا پھاڑنا، کپڑے کا گریبان بنانا۔ جَوَّبَ الثوبَ: کا گریبان بنانا۔ ــــ الشيءَ: کو بیچ سے کاٹنا، قطع کرنا۔ اِنْجَابَ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ ــ ت السحابةُ: بادل کا کھل جانا۔ اِجتابَ القميصَ: قمیص پہننا۔ الجَوْب (مص) جمع أَجْوَاب: عورت کی قمیص، انگیٹھی، بڑا ڈول۔ ــــ والمِجْوَب: ڈھال۔ الجَوْبَة جمع جُوَب: گھروں کے درمیان خالی زمین کا ٹکڑا۔ مُجَوَّب: درمیان سے کھوکھلا۔ الجَيْب: دیکھو: جیب۔

۴۔ جَاوَبَ مُجَاوَبَةً ہ: سے گفتگو کرنا، کے سوال کا جواب دینا۔ أَجَابَ إِجَابَةً و إِجَابًا ہ و ــ سؤالَهُ و عن سؤالِهِ و إلى سؤالِهِ: کو جواب دینا۔ کہا جاتا ہے: اجابه إلى حاجتِهِ: اس نے خوشی سے اسکی حاجت روائی کی۔ تَجَاوَبُوا: ایک دوسرے کو جواب دینا، باہم گفتگو کرنا۔ استجاب اِستِجابَةً ہ و لَه: کو جواب دینا۔ اللّٰهُ فلانًا و لفلان و من فلان اللہ کا کسی کی دعاء قبول کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا۔ اِسْتَجْوَبَ اِسْتِجْوَابًا ہ و لَهُ: کو جواب دینا۔ ــ ہ (في اصطلاح المحاكم): ملزم سے پوچھ گچھ کرنا، تفتیش کرنا، جرح کرنا۔ الجَابَة: قبولیت۔ کہا جاتا ہے: أَسَاءَ سمعًا فأَسَاءَ جابَةً: اس نے برے طریقے سے سنا اور برے طریقے سے ہی قبول کیا۔ الجَوَاب جمع أَجْوِبَة و جَوَابات: جواب سوال، خط، دعاء، اعتراض، مخاطبت وغیرہ کا)۔ الجِيبَة: جواب کی ہیئت و کیفیت۔ المَجُوبَة: جواب۔ الإِسْتِجْوَاب (مص) (في اصطلاح المجالس النيابية: مقننہ میں سوال۔ (في عرف المحاكم): عدالت میں ملزم سے پوچھ گچھ، تفتیش، جرح۔

۵۔ أَجَابَ تِ الارضُ: زمین کا سبزہ اُگانا۔

○ جُوَافَة: امرود، امرود کا پیڑ۔

○ جُوَال جمع جُوَالات: ٹاٹ، بوریا۔

○ جُوَانِيّ: دستانے۔

○ جُوب: لہنگا (skirt)۔

○ جوب: جَابَ ـُ جَوْبًا ہ: کسی علاقہ ملک وغیرہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرنا، پھرنا۔ ــــ ہ: میں سے گزرنا، کے پار جانا، میں گشت لگانا، کی سیاحت کرنا، غیر معروف علاقے کی سیاحت کرنا، کو چیرنا، چھیدنا، میں گھسنا، میں سوراخ کرنا، میں کاٹ کر راستہ بنانا، کسی علاقہ میں ادھر ادھر پھرنا، آوارہ گردی کرنا، گشت کرنا۔ جَاوَبَ ہ علی: کو کا جواب دینا۔ ــ ہ: کو تسلیم کرنا، ماننا، قبول کرنا، حکم بجالانا۔ أَجَابَ ہ/إلى/عن/على: کو سوال کا جواب دینا۔ ــــ ہ: درخواست کے مطابق عمل کرنا، کو تسلیم کرنا، کا پاس لحاظ کرنا۔ ــــ ہ: کو سننا، کی درخواست یا خواہشات کو مان لینا۔ ــ ہ: خواہش پوری کرنا، تسلیم کرنا۔ ــ إلى: کی اجازت یا منظوری دینا، پر رضامندی ظاہر کرنا، تجویز مان لینا، پر اتفاق کرنا۔ أَجَابَ إلى طلبه: درخواست کی تعمیل کرنا۔ تَجَاوَبَ: ایک دوسرے کو جواب دینا۔ ــ ہ/ب: سے گونجنا۔ ــ آوازوں کا اونچا اور صاف

ہونا، باہمی طور پر مماثل یا تساوی ہونا، ہم آہنگ ہونا۔ — مع: صورت حال کا کسی کے لئے موافق ہونا، ساز گار ہونا، مسعود ہونا، نیک شگون والا ہونا۔ اِنْجَابَ: (بادلوں کا) بکھر جانا، گزر جانا، پریشانیوں کا دور ہو جانا (تاریکی کا) دھیرے دھیرے اوجھل ہو جانا۔

اِسْتَجَابَ ہ: (دعا) سننا، (دعا) کا جواب دینا، (درخواست) منظور کرنا۔ — ل: کی درخواست کی تعمیل کرنا، کی خواہشات کا پاس یا لحاظ کرنا، کا رد عمل ہونا۔ — لِ ب: کو کے ساتھ جواب دینا، — ل: کو بغور سننا، پر توجہ دینا، میں دلچسپی ظاہر کرنا۔ —— ل ب: سے کے ساتھ ملنا، کو کے ساتھ جواب دینا، کو کسی بات سے یا کچھ کر کے جواب دینا۔ — گونجنا، بار بار گونجنا (آواز وغیرہ کا)۔ — لِ/الی: سے گونج اٹھنا۔ — استجوب ہ: سے پوچھ گچھ کرنا، جرح کرنا، سے سوال کرنا، کا بیان لینا (عدالت میں)، مدعا علیہ یا گواہ کو سننا، پارلیمنٹ میں کسی سے سوال کرنا۔ جَوْب: سفر، (غیر ممالک میں) کھوج، چھید کرنا، سوراخ کرنا، گھسنا۔ جُوبَة جمع جَوْبات و جُوَب: سوراخ، گڑھا، شگاف، راستہ۔ جَواب جمع اَجْوِبَة: جواب، آدھا سُر، جمع جَوابَات: خط، پیغام۔ جوابُ الشرط: جملہ جزائیہ۔ جَوابی: جوابی۔ جَوَّاب: (غیر ملک میں) سفر کرنے والا، کسی علاقہ سے گذرنے والا، مسافر، غیر معروف علاقہ کی سیاحت کرنے والا۔

اجابة: جواب، جواب دینا، جوابی اقدام، رد عمل، جوابی عمل، درخواست، استدعا پوری کرنا، منظور کرنا، رسائی، رضامندی، منظوری، اجازت، خوشنودی، موافقت۔ اجابةً لطلبکم: آپ کی حسب خواہش، آپ کی درخواست کے جواب میں۔ تَجَاوُب: مطابقت، میل، ہم آہنگی، اتفاق۔ استجابة: (دعا کو) سننا، دعا کا جواب دینا، درخواست، خواہش کا پورا کرنا، منظور کرنا، گونج، صدائے بازگشت، ہم آہنگی، ہم نوائی، موافقت۔ استجابةً لِ: کی تعمیل میں، کے جواب میں، کے پاس ادب سے۔ اِسْتِجْواب جمع استجوابات: پوچھ گچھ، سوال کرنا، سننا، سماعت کرنا، ملاقات، انٹرویو، (پارلیمنٹ میں) سوال (interpellation)۔ متجاوب: مطابق، ہم آہنگ، شیریں۔ مستجیب: سننے والا، جواب دینے والا، منظور کرنے والا، صدا دینے والا، گونجنے والا، منعکس ہونے والا، گونج دار، گمک دار، گونج پیدا کرنے والا، اثر پذیر، جواب دہ، زود حس، ہمدرد، اثر قبول کرنے والا، متاثر ہونیوالا، زود رنج۔

جوت: جوتہ او قُنّب کلکوتا او قُنّب هندی: سَن، پٹ سن، ریشہ وزریں۔

جاح: ۱۔ جَاحَ ـجَوْحًا: سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔

۲۔ جَاحَ ـجَوْحًا و جِيَاحَةً و اَجَاحَ و اِجْتَاحَ ہ: کو جڑ سے کھیڑنا، ہلاک کرنا۔ الجَوْحَة: سختی، مصیبت، آفت۔ الجائحة جمع جائحات و جَوَائح: بلا، ہلاکت، مصیبت، آفت۔ سنة جائحة: خشک سال۔

۳۔ الأجْوَح مؤنث جَوْحاء جمع جُوح: وسیع، کشادہ۔

○ جَاحَ ـ و اَجَاحَ: تباہ کرنا، برباد کرنا، نیست و نابود کرنا۔ — ہ: پانی کا زمین پر پھیل جانا، سیلاب کا زمین کو غرقاب کر دینا۔ اجتاح ہ سیلاب کا زمین کو زیر آب کر دینا؛ — ہ/ ہ: (طوفان سیلاب کا) کو بہا لیجانا، اڑا لیجانا۔ —— ہ (بلوہ، فساد) کو دبا دینا، فرو کرنا۔ اِجاحة: تباہی، بربادی، ہلاکت، تباہ کاری، فناء کامل، فصلوں کا نقصان، فصلوں کی تباہی، بری فصل۔ اجتیاح: تباہی، بربادی، ہلاکت، تباہ کاری، فناء کامل، بندش، انسداد، روکنا، فرو کرنا، زور توڑنا، تسخیر۔ جائح: مصیبت انگیز، تباہ کن، برباد کرنے والا، کچل ڈالنے والا، پیس ڈالنے والا۔ جائحة جمع جَوَائح: تباہی، بربادی، مصیبت، آفت، سانحہ، وبا، فصلوں کا نقصان۔

جاخ: جَاخَ ـجَوْخًا السيلُ الوادیَ: سیلاب کا وادی کے کناروں کو بہا لیجانا۔ جَوَّخَ السیلُ الوادیَ: سیلاب کا وادی کے کناروں کو بہا لیجانا، — ہ: کو پچھاڑنا، اکھیڑنا۔ تَجَوَّخَ: بکھر جانا، اکھڑ جانا۔ — تِ القرحةُ: زخم کا پھٹ کر بہنا۔ — تِ البئرُ: کنویں کا گر پڑنا۔ الجُوخة: گڑھا، کو جاہ کی تعریب ہے، جس کا معنی وہ کنواں ہے جس کا کوئی پیندہ نہ ہو۔ الجُوخ جمع اَجْواخ: اونی کپڑا، بانات۔ الجُوخة: اونی کپڑے کا ٹکڑا، (فارسی لفظ)۔

○ جُوخ جمع اجواخ: پٹو، پٹی (اونی)۔

جاد: ۱۔ جَادَ ـجَوْدَةً و جُوْدَةً: عمدہ ہونا، اچھا کرنا۔ جَوَّدَ الشيءَ: کو خوبصورت بنانا، عمدہ بنانا۔ اَجَادَ: اچھا کرنا یا کہنا۔ — ہ النقدَ: کو کھرے کھرے سکے دینا۔ — و أجْوَدَ الشيءَ: کو عمدہ بنانا۔ تَجَوَّدَ: عمدہ چیز پسند کرنا۔ — فی صنعتہ: اپنی کاریگری میں باریکی دکھانا، صنعت میں عمدگی سے کام کرنا۔ تَجَاوَدَ القومُ: یہ غور کرنا کہ صحت کی رو سے کون بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے: هم يتجاوَدُونَ الحديثَ: وہ دیکھتے ہیں کہ کس کی بات زیادہ عمدہ ہے۔ اِسْتَجَادَہ: کو عمدہ سمجھنا۔ الجَيِّد جمع جِيَاد و جمع جیادات و جَيائد: عمدہ، قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جمع جَیاوِد ہوتی مگر واو کو ہمزہ سے بدل لیا گیا ہے اور یہ شاذ ہے۔ رجل او شاعر مُجِيد و مِجْوَاد: عمدہ کام کرنے والا آدمی یا اچھے شعر کہنے والا شاعر۔

۲۔ جَادَ ـجُوْدًا ہ: پر بخشش میں غالب ہونا۔ — علیہ پر فیاض ہونا، صفت: جواد۔ — بالمال مال خرچ کرنا۔ — بنفسه: جان دینا۔ کہا جاتا ہے: انی لاَجاد الی لقائك: میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں۔ جَاوَدَ مُجَاوَدَةً ہ: سے فیاضی میں مقابلہ کرنا۔ اَجَادَ بالولد: فیاض بچے کا باپ ہونا۔ اِستجادَ الأميرَ: حاکم سے بخشش مانگنا۔ الجَوَاد جمع اَجْواد و اَجاوِد و اَجَاوِید و جُود و جُوْدَة و جُوَداء: سخی (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے: رجلٌ جوادٌ و امرأة جوادٌ: سخی مرد، عورت۔ الجَوَّاد: بہت سخی، بڑا فیاض۔ الأجْوَد: اسم تفضیل مؤنث جَوْداء (خلاف قیاس) جمع جُوْد و اَجَاوِید: زیادہ سخی۔

۳۔ جَادَ ـجُوْدًا ہ الهوی: پر خواہش کا غالب ہونا۔

۴۔ جَادَ ـجَوْدًا و جُؤُودًا تِ العينُ: آنکھ کا کثرت سے آنسو بہانا۔ — المطرُ: بہت بارش برسنا۔ صفت جائِد جمع جَوْد (صاحب اور صحب کی طرح)۔ جِيْدَتِ الارضُ: زمین پر کثرت سے بارش ہونا۔ اُجِيدَتِ الأرضُ: زمین پر کثرت سے بارش ہونا۔ الجَوْد (مص): بہت بارش۔ التَجاوِيد: عمدہ نفع بخش بارشیں (اس کا واحد نہیں)۔

۵۔ جَادَ ـجَوْدًا و جَوَّدَ و اَجْوَدَ الفرسُ: گھوڑے کا تیز رفتار ہونا۔ جَوَّدَ فی عدوہ تیز دوڑنا۔ الجَوَاد جمع جِيَاد و اَجْيَاد و اَجَاوِيد: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے: فرسٌ جوادٌ: تیز رفتار گھوڑا۔ سرتُ اليه جوادًا: میں اس کی طرف تیز رفتاری سے چلا۔

۶۔ جِيْدَ الرجلُ: پیاسا ہونا۔ الجُوَاد: پیاس، پیاس کی شدت۔ الجَوْدَة و الجُوَادة: پیاس۔ المَجُود: پیاسا۔

۷۔ جِيْدَ الرجلُ: ہلاکت کے قریب ہونا۔ اَجَادَ الرجلَ: کو قتل کرنا۔ المَجُود ہلاکت کے قریب۔

۸۔ جَوَّدَ القارئُ: قاری کا تجوید سے پڑھنا۔ التجوِيد فی القراءة: معروف اصولوں کے مطابق ہر حرف کو اس کا حق دینا۔

۹۔ الجَاد: باطل۔ کہا جاتا ہے: وقعوا فی ابی جاد: وہ لوگ باطل میں پڑ گئے۔ الجَوَاد: دور۔ کہا جاتا ہے: سِرْنا عَقَبةً جَوادًا: ہم دور کی گھاٹی پر چلے۔ عقبتين جَوادَيْن و عِقابا جِيادا: ہم دور کی دو یا

زیادہ گھاٹیوں پر چلے۔ الجادي: زعفران۔

○ جادَ ـجُودۃً: اچھا ہونا یا ہو جانا، بہتر ہو جانا یا ہونا۔ ــــ جُوداً ب: کو فیاضی سے عطا کرنا، کو کرنے میں بہت سخی ہونا۔ ــ ب علی: میں پر فراخدل ہونا، کسی چیز کو فیاضی سے کسی کو عطا کرنا، کوئی چیز کسی کو بے انداز دینا۔ ــ علی ب: پر کسی چیز کی بھرمار کرنا۔ ــ ب: کوئی رقم وغیرہ بطور عطیہ دینا۔ جاد بنفسہ: جان دینا، اپنے آپ کی قربانی دینا۔ جادت عيناه بالدم: کی آنکھوں سے آنسوؤں کا پھوٹ کر نکلنا۔ جادت السماءُ: بارش ہونا۔ جَوَّدَ ہ: کو اچھی طرح کرنا، کو بہتر بنانا، سدھارنا (قرآن کی) تلاوت کرنا (تجوید کے ساتھ)۔ اَجادَ ہ: کو اچھی طرح کرنا، عمدہ طور پر کرنا، پر کمال حاصل کرنا، میں ماہر ہونا، لائق ہونا، کا ماہر ہونا، (فن یا علم کے کسی شعبہ) سے واقف و آگاہ ہونا۔ ــــ اچھی اور عمدہ باتیں کہنا، یا انہیں انجام دینا (شاعر وغیرہ کا) بہت اچھا، ممتاز، مشہور ہونا، عمدہ نتائج حاصل کرنا۔ اَجادَ لغةً: کسی زبان پر قدرت حاصل کرنا۔ أَجادَ العزف علی البیانو: پیانو اچھا بجانا۔ اِستَجادَ ہ: کو اچھا یا عمدہ سمجھنا، کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا۔ ــ ہ ل: کو کیلئے موزوں خیال کرنا یا کسی کے مناسب سمجھنا۔ جُود: فراخدلی، فیاضی، سخاوت۔ جَوْد: بھاری بارشیں۔ جُودۃ: عمدگی، شرف، برتری، تفوق، خوبی۔ جَیِّد جمع جِیاد: اچھا، شاندار، بے عیب، نمایاں، عمدہ، اعلی، نہایت عمدہ، خوب۔ جَیِّداً: اچھی طرح، خوب طرح، پوری طرح۔ جَیِّدٌ جداً: بہت اچھا۔ اَجْوَد: بہتر۔ جَواد جمع اَجْواد و اَجاوِد و اجاوید و جُود: فراخ دل، فیاض، سخی۔ جَواد جمع جِیاد و اَجیاد و اَجاوید: گھوڑ دوڑ کا گھوڑا، جنگی گھوڑا۔ ابن الأجود: شریف آدمی۔ مُجید: ماہر، فاضل، ہنرمند، پختہ کار، کاریگر، قابل، لائق۔

جار: ۱۔ جارَ ـجَوْراً عن الشيء: سے ہٹ جانا۔ کہا جاتا ہے: جار عن الطريق: وہ راستہ سے ہٹ گیا۔ ــ علیہ: پر ظلم کرنا۔ صفت: جائِر جمع جَوَرَۃ و جُوَرَۃ و جارۃ۔ جَوَّرَہ: کو ظلم کی طرف منسوب کرنا۔ اَجارَ اِجارۃً ہ عن کذا: کو سے ہٹا دینا۔ اِستَجْوَرَہ: کو ظالم پانا۔ الجَوْر (مص): ظالم۔

۲۔ جارَ ـجُواراً: فریاد رسی چاہنا۔ اَجارَ فُلاناً: کی فریاد رسی کرنا۔ ــ ہ من العذاب: کو عذاب سے بچانا۔ ــــ المتاعَ: سامان کو حفاظت کے لئے برتن میں رکھنا۔ اِستَجارَ فلاناً و بہ: سے فریاد رسی چاہنا، کے پاس پناہ لینا۔ ــــ ہ من فلان: سے درخواست کرنا کہ وہ اسے فلاں شخص سے بچائے اور پناہ دے۔ الجَار جمع جِیران و جِیرَۃ و جِوار و اَجْوار: پناہ دینے والا، پناہ گیر۔ الجارۃ جمع جارات: بیوی۔ الجِوَار: امان، عہد، ذمہ داری و پیمان۔ کہا جاتا ہے: هو في جواري: وہ میری ذمہ داری اور امان میں ہے۔

۳۔ جَوَّرَہ: کو پچھاڑنا۔ ــ البناءَ (ب): عمارت کو مسمار کرنا، گرا دینا، ڈھا دینا۔ تَجَوَّرَ الرجلُ: پچھڑ جانا۔ ــ علی الفراش: بستر پر لیٹ جانا۔ ــ البناءُ (ب): عمارت کا مسمار ہو جانا، ڈھے جانا، گر جانا، منہدم ہونا، کہا جاتا ہے: تَجَوَّرَ خِباءُ اللیل: رات کی تاریکی چھٹ گئی۔ الجَوار: گہرا پانی۔ المُجَوَّر: گہرا۔

۴۔ جاوَرَ مُجاوَرۃً و جِواراً و جُواراً ہ: کے پڑوس میں رہنا۔ ــــ المسجدَ: مسجد میں معتکف ہونا۔ تَجاوَرَ و اجتَوَرَ القومُ: ایک دوسرے کے پڑوس میں رہنا۔ الجار جمع جِیران و جِیرَۃ و جِوار و أَجْوار: پڑوسی۔ جار النهر (ن): نیلوفر سے ملتا ہوا ایک پودا۔ الجارۃ جمع جارات: پڑوسن، سوت۔ الجِوار: جاوَرَ کا مصدر۔ کہا جاتا ہے: اقام في جوارِہ: وہ اس کے پڑوس میں اقامت پذیر ہوا۔

۵۔ الجُوَرُ من الغيث: بہت کڑک اور گرج والی بارش۔ مالٌ جُوَرٌ: بہت مال۔

۶۔ جَوْرَبَ ہ فتَجَوْرَبَ: کو جراب پہنانا، جراب پہننا۔ الجَوْرب جمع جَوارِب و جَوارِبۃ: جراب، پاتابہ، موزہ، عوام اسے کلسہ اور قلشینہ کہتے ہیں (فارسی لفظ)۔

۷۔ الجاورس (ن): باجرہ۔

○ جارَ علی: دوسرے کے علاقے پر تجاوز کرنا۔ جاوَرَہ: کا پڑوسی ہونا۔ ــــ ہ: کے متصل ہونا۔ ــــ ہ/ہ: کے قریب ہونا، کے قرب و جوار میں ہونا، سے متصل ہونا۔ اَجارَہ: کو پناہ دینا۔ ــــ ہ من: کی سے حفاظت کرنا، کو اپنی حفاظت میں لینا۔ ــــ ہ: کی مدد کرنا، کو امداد دینا۔ تَجاوَرَ: باہم پڑوسی ہونا، آس پاس ہونا، مشترکہ سرحد والا ہونا۔ اِستَجارَ ب من: کی سے پناہ طلب کرنا، سے کے خلاف مدد کی اپیل کرنا۔ جَوْر: ظلم، ناانصافی، زیادتی، زبردستی، ناجائز دست اندازی، جبر، تعدی، جور، ظلم و ستم، تشدد۔ جار جمع جِیران: پڑوسی، پناہ گیر، زیر حفاظت، یا زیر حمایت شخص۔ وہ شخص جو کسی کی نگرانی میں ہو۔ جِیرَۃ: پڑوس۔ جُوْرَۃ: گڑھا، سوراخ۔ جِوار: پڑوس، نزدیکی، قرب۔ بجوار ــ: کے پڑوس میں، کے گرد و نواح میں، کے قریب، کے متصل۔ مُجاوَرۃ: پڑوس، نزدیکی، قرب، جائِر جمع جَوَرَۃ و جارۃ: بے انصاف، ناواجب، بدمعاملہ، نامناسب، جابرانہ، مستبدانہ، استبدادی، خودسرانہ، ظالم، جابر، ستمگر، موذی، خودسر۔ مُجاوِر: پڑوس کا، متصل، قریب، نزدیک جمع مُجاوِرون: طالب علم (خصوصاً جامعہ ازھر کا) مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والا۔ مُجیر: حفاظت کرنے والا۔ مُتجاوِر: مشترک سرحد والا متصل، ملحق، ملا ہوا۔

○ جَوْرجیا: جارجیا: سوویت یونین کے ایک جمہوری ملک کا نام۔

○ جُوری: دمشقی گلاب، گہرا سرخ رنگ۔

○ جُوری: جیوری، جماعت منصفین۔

جاز: ۱۔ جازَ ـجَوْزاً و جُؤُوزاً و جَوازاً و مَجازاً المکانَ و بالمکان: کسی جگہ میں چلنا۔ ــــ المکانَ: جگہ سے گزر کر آگے بڑھنا۔ جَوَّزَ الإبلَ: اونٹوں کو آگے سے ہانکنا یہاں تک کہ سب گزر جائیں۔ جاوَزَ المکانَ: جگہ سے آگے بڑھ جانا۔ اَجازَ اِجازۃً الموضعَ: کسی مقام سے آگے بڑھ جانا۔ ــ ہ العقبۃَ: کو گھاٹی سے گزار دینا۔ ــ ہ بالف درهمٍ: کو ایک ہزار دینار انعام دینا۔ تَجاوَزَ المکانَ: کسی جگہ سے آگے نکل جانا۔ ــ في الشيءِ: میں افراط کرنا۔ اِجتازَ: چلنا۔ ــ بالمکان: کسی جگہ سے گزرنا۔ ــ من مکان الی آخر: ایک جگہ سے دوسری جگہ عبور کر کے جانا۔ الجائِز جمع جَوائِز و جُوْزان و جِیزان و أَجْوُز و أَجْوِزَۃ: دو دیواروں کے درمیان رکھی ہوئی لکڑی۔ الجائِزۃ جمع جَوائِز: انعام، عطیہ، بخشش۔ جَوائِزُ الأشعار والأمثال: ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے والے اشعار اور امثال۔ الجَواز: ایک چشمہ سے دوسرے چشمہ تک کافی ہونے والا پانی جو مسافر اپنے ہمراہ لے جائے۔ الجُوْزۃ: پانی کے ایک مرتبہ پینے کی مقدار جو مسافر ایک چشمہ سے دوسرے چشمہ تک لیجائے۔ الجِیزۃ جمع جِیَز و جِیَز: پانی کے ایک مرتبہ پینے کی مقدار۔ المَجاز و المَجازۃ: راستہ، گزرگاہ۔ مَجازۃ النهر: پل۔

۲۔ جازَ ـجَوازاً الامرُ: جائز ہونا، درست ہونا۔ کہا جاتا ہے: جازَ لَہُ أن یفعل کذا: اس کے لئے ایسا کرنا جائز، ممکن اور روا ہے۔ جَوَّزَ الامرَ: کو روا اور جائز ٹھہرانا۔ ــــ الحکمَ: کو جائز سمجھنا۔ جاوَزَ الرجلَ: کو اجازت دینا۔ اَجازَ اِجازۃً الشيءَ: کو جائز کرنا۔ ــ الرجلَ: کو اجازت دینا۔ اِستَجازَ استجازۃً: اجازت مانگنا۔ ــــ الامرَ: کو جائز سمجھنا۔ الجائز جمع

جَوَائِز و جُوْزَان و جِیزَان و اَجُوْز و اَجْوِزَة: مباح، روا۔الجائِزَة: جائز کا مؤنث۔الجَوَاز جمع اَجْوِزَة: امکان، پاسپورٹ، عام لوگ اسے تذکرۃ السفر یابسابورط کہتے ہیں۔الاجازَة: اجازت، لائسنس، جامعاتی ڈگری، اصطلاح محدثین میں روایت کی اجازت لفظی یاتحریری طور پر۔المُجِیز (فا): سرپرست، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا یا منتظم، کارحین، غلام جس کوتجارت کی اجازت ہو۔المُجَاز: جسے اجازت دی گئی ہو، لائسنس یافتہ، اسی سے ہے: مُجازٌ فی الحقوق: قانون کا سند یافتہ، قانون کی ڈگری کا حامل۔مُجازٌ فی الآداب: آرٹس کی ڈگری کا حامل (بی اے، ایم اے)۔

۳۔جَازَ۔جَوْزًا و جُؤُوزًا و جَوَازًا و مَجَازًا البیعُ: بیع کا پورا ہونا۔۔جَوَازًا عن الصید: شکار کو پار کر کے نکل جانا۔۔السهمُ اِلی الصید: تیر کا شکار سے بچ کر نکل جانا۔جَوَّزَ رایَهُ: کی رائے کو جاری اور نافذ کرنا۔اَجَازَ القاضی البیعَ: قاضی کا بیع کو نافذ کرنا۔۔ الرایَ: رائے کو نافذ کرنا۔الجَائِز جمع جَوَائِز و جُوْزَان و جِیزان و اَجُوْز و اَجْوِزَة: نافذ۔

۴۔جَازَ۔جَوَازًا الدرهمُ: درہم کا رائج ہونا، قبول کیا جانا۔جَوَّزَ الدَراهِمَ: درہموں کو رائج کرنا۔تَجَوَّزَ الدراهِمَ: کھوٹے درہم قبول کرلینا۔

۵۔جَاوَزَ عن الذنب: گناہ سے درگزر کرنا۔تَجَوَّزَ عنه: سے چشم پوشی کرنا، کو معاف کرنا۔۔ فی الأمر: کسی معاملہ کو برداشت کرنا، سے چشم پوشی کرنا۔تَجَاوَزَ عنه: سے چشم پوشی کرنا، کو معاف کرنا۔الجَوَاز: رواداری۔آپ کہتے ہیں: من خُلُقی الجَوَاز: میری افتاد طبع میں رواداری ہے۔

۶۔اجَازَ الشاعِرُ: شاعر کا اپنے شعر میں کسی دوسرے شاعر کے کلام میں اضافہ کو استعمال کرنا۔

۷۔اَجَازَ اجازَةً علی اسمه: کے نام پر دھبا لگانا۔

۸۔تَجَوَّزَ فی الصلاة: نماز میں اختصار کرنا۔۔ فی کذا: تھوڑی چیز پر اکتفاء کرنا۔

۹۔تجوز فی الکلام: مجاز بولنا۔المَجاز: وہ لفظ جو اپنے معنی سے دوسرے مناسب معنی میں استعمال کیا جائے۔

۱۰۔جَوْز جمع أَجْوَازُ الشیء: چیز کا وسط اور اکثر حصہ۔کہا جاتا ہے: قطعوا جَوْزَ الفلاة: انہوں نے جنگل کا بیشتر حصہ طے کیا۔مضی جوزُ اللیل: رات کا اکثر حصہ گزر گیا۔الجَوْز واحد جَوْزَة (ن): اخروٹ کا درخت۔جوز الهند: ناریل، کھوپرا، کھوپا۔جوز الفَوْفَل او الفُوفُل (ن): چھالیہ۔جَوْزَةُ العُنق: آدمی کی گردن کے اگلے حصہ میں ابھار جو درقی ہڈی سے مرکب ہوتا ہے۔الجِیزَة جمع جِیز و جِیَز: کنارہ، گوشہ، وادی کا کنارہ۔مُجوَز (مو): دوتالی ہوا یا جا۔المَجَازَة و ارضٌ مَجَازَة: بہت اخروٹوں والی زمین، یعنی وہ زمین جہاں اخروٹ کے بکثرت درخت ہوں۔

۱۱۔الجَوْزَاء (فلك): آسمان کا ایک برج۔(ح): درمیان میں سفیدی والی سیاہ بکری۔

۱۱۔الجَوْزَل: دیکھو جزل۔

○ جَازَ۔جَوَازًا و مَجَازًا ہ: (کسی جگہ سے) گزرنا، کسی جگہ میں سفر کرنا، سے بچ نکلنا: (امتحان، جائزہ) پاس کرنا۔۔: جائز ہونا، کی اجازت ہونا، روا ہونا، ممکن ہونا، قابل فہم ہونا، سمجھ میں آنے والی بات ہونا۔۔ علیه: (حیلہ، چالبازی ترکیب وغیرہ کا) کسی پر چل جانا۔جازت علیه الحیله: اس پر فریب چل گیا، وہ فریب میں آگیا، جھانسہ میں آگیا۔جَوَّزَ ہ: کی اجازت دینا، کو ہونے دینا، کو جائز قرار دینا، کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، کی منظوری دینا، کا اختیار دینا، کا جواز پیش کرنا۔جَاوَزَ ہ: کے پاس سے گزرنا، سے آگے جانا، کو عبور کرنا، کو پیچھے چھوڑنا، کی حد سے بڑھنا۔جَاوَزَ الثلاثین من العمر: وہ تیس سال سے زیادہ عمر کا ہے۔۔ ہ: سے زیادہ ہونا، سبقت لیجانا، سے بڑھ جانا۔۔ عن: کو چھوڑ جانا، نظر انداز کرنا، پر کوئی توجہ نہ کرنا، کو سزا کے بغیر چھوڑ دینا، کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، سے دست کش ہونا۔اَجَازَ ہ اِلی: سے تک سفر کرنا، کو عبور کر کے کسی طرف جانا۔۔ ل ہ: کو کی اجازت دینا، کو کچھ کرنے کا اختیار دینا۔۔ ہ ہ: کو کچھ کرنے کا اختیار دینا۔۔ ہ: (فیصلہ، حکم) پر صاد کرنا، کو منظور کرنا، کی منظوری دینا، کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا۔۔ ہ: کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، منظور کرنا، کی منظوری دینا۔تَجَوَّزَ: برداشت کرنا، گوارا کرنا، مصیبت میں پڑنا، مصیبت اٹھانا۔تَجَاوَزَ ہ: کے پاس گزرنا، سے آگے جانا، کی حد سے بڑھنا، کو عبور کرنا، کو پیچھے چھوڑنا۔۔ ہ/علی: سے زیادہ ہونا، سبقت لیجانا، (حد) سے بڑھنا، تجاوز کرنا۔۔: بہت دور جانا، تمام حدود سے بڑھنا، تجاوز کرنا، زبردستی مداخلتیں کرنا۔۔ عن: کو چھوڑ جانا، نظر انداز کرنا، پر کوئی توجہ نہ دینا، کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، سے دست کش ہونا، سے باز رہنا۔اِجْتَازَ ہ: سے گزرنا، جانا، نکل جانا، کو کاٹتے ہوئے جانا، (سرحد) عبور کرنا، (گلی) عبور کرنا، (پہاڑی سلسلہ) عبور کرنا، (ملک یا سمندر) کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرنا، (فاصلہ) طے کرنا، (خیالات وغیرہ) کا ذہن سے گزرنا، (مصائب، بحران) کو جھیلنا، برداشت کرنا، (بحران پر) غالب آنا، قابو پانا۔اِسْتَجَازَ ہ: کو جائز یا روا سمجھنا۔۔: اجازت مانگنا۔جَوْز (صحراء وسیع وعریض علاقے کا دل، مرکز۔فی اَجْوَازِ: میں، کے وسط میں، کے درمیان میں، کے دوران میں۔فی اجوازِ الفضا: فضا میں۔جَوَاز: جواز، قابل منظوری ہونا، جائز ہونا، مباح ہونا، مناسب ہونا، درست ہونا، قابل تسلیم واقعہ، منظوری کی قابلیت، قانونیت، شریعت، شریعت پسندی، ضابطہ سے مطابقت، مباحت (سرکاری) اجازت، پرمٹ، لائسنس، حکم، اجازت، اختیار، امکان، قابل فہم ہونا، (امتحان) پاس کرنا۔جواز السفر: (سفر کا) پاسپورٹ۔مَجَاز: عبور کرنا، راستہ، گزرگاہ، راہ، کسی ریاست کا تنگ راستہ جو علاقہ غیر سے ہو کر گزرتا ہو، مجاز، کنایہ، استعارہ، استعارہ بالکنایہ، تشبیہ)۔مجازی اظہار۔مَجَازًا و علی سبیل المَجاز: استعارۃً و کنایۃً، مجازاً۔مَجَازی: مجازی، صنائع بدائع سے پُر۔اجازة: اجازت، اختیار، منظوری، لائسنس، جامعاتی ڈگری، پرمٹ، تعطیلات، چھٹی (غیر حاضری کی)۔اجازة الحصر: رجسٹری شدہ چیز (وہ چیز جس کے بنانے اور بیچنے کا حق محفوظ ہو یا جو کسی شخص کے ساتھ مخصوص ہو، پیٹنٹ، (patent) کی منظوری letters patent وہ شخص جس کو حکومت کی طرف سے کوئی چیز بنانے کا اختیار حاصل ہو اور اس کی نقل کرنا قابل گرفت ہو۔اس کا اجراء۔اجازة قُنْصُلِیَّة: کسی حکومت کا دوسرے ملک کے قونصل کو تسلیم کرنا exequatur of a consul۔اِجازہ مرضیه: بیماری کی چھٹی۔الاجازات المدرسیة: سکولوں کی تعطیلات۔غائِبٌ بالاجازة: چھٹی پر، تعطیلات منانے والا۔مُجَاوَزَہ و تجاوَز: عبور کرنا، سے بڑھنا، بنک سے زائد وصولی، فاضل وصولی، بنک سے زائد یا فاضل وصول کرنا۔۔ عن: سے بے پروائی، بے التفاتی، بے اعتنائی، بے توجہی، سے دست کشی، دست برداری۔اجتیاز: عبور کرنا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرنا، نقل مکانی، سفر، مسافرت، راستہ، گزرگاہ، عبور، گزر، (فاصلہ) طے کرنا، (امتحان) پاس کرنا، (مشکلات پر) قابو پانا۔جائِز: جائز، روا، قانونی، ضابطہ کے مطابق، قابل فہم، قابل غور، قابل

ادراک، سمجھ میں آنے والی (بات)۔ جائِزَۃ: انعام، جزا، صلہ، معاوضہ، عوض، بدلہ، اجر، مکافات، پھل، عطیہ، بخشش، اجرت کے علاوہ دیا جانے والا انعام، بیمہ کی قسط، منافع۔ جائِزَۃ دِراسیۃ: وظیفہ۔ مُجاز: لائسنس یافتہ، یونیورسٹی کا سند یافتہ۔ جـــوز بمعنی زوج۔ جَوَّزَ: لڑکی کی شادی کرنا۔ جوز جمع اجواز بمعنی جوڑا۔ مِجوَز: ہوا یا جادو نالیوں والا۔ مصری زَمّار سے ملتا جلتا۔ الجَوزاء: جوزا، مثنی۔ جَوْز واحد جَوْزَۃ جمع جوزات: اخروٹ۔ جوز الطیب: جاپھلی، جائفل۔ جوزُ القَیء: ایک درخت کا تخم، کچلا، فارس ماہی۔ جوز الھند، جوز ھندی: ناریل، کھوپرا۔ جوزُ القزّ: ریشم کے کیڑے کی ارتقائی حالت۔ جَوزی: سخت پوست کے گری دار میوہ کا یا کے متعلق، سرخی مائل، بادامی۔

○ جَوْزَل جمع جوازل: جوان کبوتر۔

جاس: ۱۔ جَاسَ جَوْسًا الشیءَ: کو بہت چاہنا اور بہت انہماک سے تلاش کرنا۔ ـــ جَوسًا و جَوَسَانًا القَومِ بین البیوت و الدُّور: لوٹ کے لئے گھروں اور مکانوں میں گھومنا۔ جَاسَی ہ: سے دشمنی کرنا۔ اِجْتَاسَ الشیءَ: کو بہت چاہنا اور انہماک سے تلاش کرنا۔ الجَوّاس: قوم میں گھس کر فساد برپا کرنے والا، شیر۔ جَوسَۃُ النَّاظِر: دیکھنے والی کی ٹکٹکی۔

۲۔ الجَوسَق جمع جَواسِق و جواسیق: محل، قصر (فارسی لفظ)۔

○ جَاسَ جَوْسًا خِلالَ: میں غور سے ادھر ادھر دیکھنا، ٹوہ میں لگے رہنا، راز جوئی کرنا، چاروں طرف دیکھنا۔ ـــ ہ: کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا، کی تفتیش کرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا۔ اِجْتَاسَ: بمعنی جَاسَ ہ۔

○ جَوسَق جمع جَواسِق: محل، جاگیر، تعلقہ، گاؤں۔

○ جَوِیطَۃ جمع جَوَائِط: میخ، کھونٹی۔

جاش: جَاشَ جَوْشًا: رات بھر چلنا۔ تَجَوَّشَ فی الارض: زمین میں داخل ہونا۔ ـــ اللیلُ: رات کا کچھ حصہ گزر جانا۔ الجَوْش (مص): سینہ۔ کہا جاتا ہے: مَضٰی جَوْشٌ من اللیل: رات کا شروع یا رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔

۲۔ الجَوْشَن جمع جَوَاشِن: سینہ، زرہ۔ ـــ من اللیل: رات کا وسط یا اگلا حصہ۔

جاظ: ۱۔ جَاظَ جَوْظًا و جَوَظَانًا: اکڑ اور تکبر سے چلنا۔ الجَوّاظ: تکبر سے چلنے والا۔ الجَوّاظَۃ: بمعنی الجَوّاظ: ت مبالغہ کی ہے۔

۲۔ جَوَّظَ و تَجَوَّظَ: کوشش کرنا۔

۳۔ جَوَّظَ: تنگ ہونا، بے صبر ہونا۔ الجُواظ: تنگی اور بے صبری۔

۴۔ الجَوّاظ: اجڈ، اکھڑ، بسیار خور۔

جاع: جَاعَ جُوعًا و مَجَاعَۃً: بھوکا ہونا، صفت: جَائِع و جَوعان مؤنث: جائِعۃ و جَوعَی جمع جِیاع و جُوَّع۔ ـــ الیہ: کا مشتاق ہونا۔ جَوَّعَ تَجوِیعًا و اَجَاعَ اِجَاعَۃً ہ: کو بھوکا رکھنا، کی خوراک روک دینا۔ کہا جاتا ہے: اَجَاعَ قِدرَہ: اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں بھرا۔ جائِع القِدر: خالی ہانڈی والا۔ تَجَوَّعَ: بناوٹی بھوکا بننا۔ اِستَجَاعَ استجاعَۃً: کوئی چیز سیر ہو کر نہ کھانا، ہر گھڑی کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا۔ الجُوع و المَجَاعۃ: بھوک۔ کہا جاتا ہے: عامُ مَجَاعۃٍ او مُجُوعۃٍ: جمع مَجاوِع: بھوک کا سال۔ الجُوع الاَغبَر: سخت بھوک۔ الجُوعُ الکلبیّ او الجوع البقریّ (طب): معدہ کی ایک بیماری جس کی وجہ سے انسان کھانے سے کبھی سیر نہ ہو اور اگر سیر ہو جائے تو جلد ہی اس کو پھر بھوک لگ جائے۔ الجَوعَۃ: قبیلہ کا خالی ہو جانا۔

○ جَاعَ جَوعًا: بھوکا ہونا، بھوکوں مرنا۔ جَوَّعَ ہ: کو بھوکا مارنا، کو کھانے کو نہ دینا، کو بھوکوں مارنا۔ اَجَاعَ: بمعنی جَوَّعَ۔ جُوع: بھوک، فاقہ، فاقہ زدگی۔ مَاتَ جُوعًا: فاقوں سے مرنا۔ جَوعان مؤنث جَوعَی جمع جِیاع: بھوکا، فاقہ دیا ہوا، فاقہ زدہ۔ مَجَاعَۃ جمع مجاعات: قحط۔ جَائِع جمع جِیاع و جُوَّع: بھوکا، فاقے دیا ہوا، فاقہ زدہ۔ تَجوِیع: کھانا روکنا، کھانے کو نہ دینا۔ اجاعۃ: کھانے کو نہ دینا، کھانا روکنا۔

جوف: ۱۔ جَافَ جَوفًا: کھوکھلا ہونا۔ جَافَ ہ جَوفًا ہ بالطعنۃ: کے پیٹ میں نیزہ مارنا۔ جَافَ ہ: کو گہرا کرنا۔ جَوَّفَ ہ: کو کھوکھلا کرنا، گہرا کرنا، کے پیٹ میں جو کچھ ہو سب نکال لینا۔ اَجَافَ ہ الطعنۃ و بالطعنۃ: کے پیٹ میں نیزہ مارنا۔ تَجَوَّفَ: کھوکھلا ہونا۔ ـــ و اِجتَافَ ہ: کے پیٹ میں داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے: اِجتَافَ الوحشی کناسَہ و تجوّفہ: وحشی جانور اپنے بھٹ میں گھس گیا۔ اِستَجَافَ و اِستَجوَفَ اِستَجَافۃً الشیءَ: کو کھوکھلا پانا۔ ـــ الشیءُ: کشادہ ہونا۔ الجوف (مص) جمع اَجوَاف: پیٹ۔ ـــ من البیت: مکان کا اندرونی حصہ۔ الجَوَف (مص): کھوکھلا پن۔ الجائف (فا) مؤنث جائِفۃ جمع جَوائِف: جوف تک پہنچنے والی چیز۔ الجائِفۃ جمع جَوائِف: پیٹ تک پہنچنے والی نیزہ کی چوٹ یا ضرب۔ الاَجوَف مؤنث جَوفاء جمع جُوف: کھوکھلا، وسیع کوکھ والا۔ الجَوفاء من الدلاء: بڑا ڈول۔ ـــ من القناء او الشجر: اندر سے خالی بانس کی برچھی یا درخت۔ المَجُوف: بڑے جوف والا۔ المُجَوَّف: کھوکھلا۔ رجل مُجَوَّف و اَجوَف و مَجُوف: بزدل آدمی۔ المُستَجاف: وسیع جوف والا۔

۲۔ اَجَافَ البابَ: دروازہ بھیڑ دینا۔

۳۔ الاَجوَف من الافعال: وہ فعل جس کا عین کلمہ حرف علت ہو اور واو ہو، جیسے قَالَ یا یائی ہو جیسے بَاعَ۔ (قول، بیع سے)۔

○ جَوَّفَ ہ: کو کھوکھلا کرنا، کو کھود کر بنانا، یا کھوکھلا کر کے بنانا۔ جَوف جمع اَجوَاف: کھوکھلا پن، کھوہ، بڑا سوراخ، وادی، خلا، جوف، گڑھا، نشیب، اندر، مرکز، دل، پیٹ۔ فی جوف: کے اندر، کے اندرونی حصہ میں، کے درمیان۔ فی جوفِ اللیل یا جوف اللیل: آدھی رات کو۔ جَوفِیّ: اندرونی، زیر زمین، زیر سطح، شمالی مغرب۔ مِیاہٌ جوفیۃ: زمین کے نیچے کا پانی۔ اَجوَف مؤنث جَوفاء: کھوکھلا، خالی بیکار، لاحاصل، احمقانہ، بے معنی، بے وقوف۔ تجویف جمع تجاویف: کھوہ، بڑا سوراخ، خلا، جوف، گڑھا۔ مُجَوَّف: کھوکھلا، کھود کر بنایا ہوا، کھوکھلا کر کے بنایا ہوا۔

جوق: ۱۔ جَوِقَ جَوَقًا الوجہُ: منہ کا ٹیڑھا ہونا صفت: اَجوَق و جَوِق مؤنث جَوقَاء جمع جوق۔ الاَجوَق: موٹی گردن والا۔ اجوَقُ الفکّ: ٹیڑھے جبڑے والا۔ المُجَوَّق: ٹیڑھے جبڑوں والا۔ جَوَّقَ القومَ: لوگوں کو جمع کرنا۔ ـــ علیہ: پر چلانا، شور مچانا۔ تجوقوا: لوگوں کا جمع ہونا۔ الجَوق جمع اَجوَاق و الجَوقَۃ: لوگوں کی جماعت: کہا جاتا ہے: جَوقَۃُ الملائکۃ و الجوقۃ الموسیقیۃ: فرشتوں کی جماعت، سازندوں کا طائفہ، سنگت، بینڈ باجے والے۔

۲۔ جَوقَل (ا ع): ہوائی جہاز کے ذریعے لوگوں اور اشیاء کو منتقل کرنا۔

○ جَوق جمع اَجوَاق و جَوقَۃ جمع جَوقات: گروہ، رسالہ، تھیٹر والوں کا طائفہ، اوپیرا یا غنائی تمثیل کا ٹولہ، گرجوں میں گانے والوں کا طائفہ، سازندوں کا طائفہ۔ جوقۃ موسیقیۃ: سازندے، سازندوں کا طائفہ۔ مُدِیرُ الجَوق: سنگیت کا ہدایتکار، بینڈ ماسٹر،

گرجے کی بھجن منڈلی کا لیڈر۔ جَوقَةُ الشرف: تعظیمی فوجی دستہ۔

جال: ۱۔ جَالَ ـُ جَولاً و جُولاً و جُؤولاً و جَوَلانًا و جِيلانًا في المكان: کسی جگہ میں گھومنا، پھرنا، چکر لگانا۔ ـُ القومُ جولةً: بھاگنے کے بعد پھر حملہ کرنا۔ جَوَّلَ تَجْوِيلاً الارضَ: زمین میں بہت گھومنا، پھرنا۔ في المكان: کسی جگہ گھومنا، پھرنا، چکر لگانا۔ أَجَالَ الشيءَ و بالشيءِ: چیز کو گھمانا (کہا جاتا ہے أَجِلْ جائِلَتَكَ: جس کام کو تو کر رہا ہے اسے پورا کر)۔ ـ السيفَ: تلوار سے کھیلنا، اسے ادھر ادھر گھمانا۔ اِجْتَالَ اِجْتِيالاً: گھومنا۔ ـ القومَ: کو ان کے ارادے سے پھیر دینا۔ تَجَاوَلَ القومُ في الحرب: ایک دوسرے کے مقابلہ میں چکر لگانا۔ الجَوَّال و الجَوَّالَة: بہت گھومنے پھرنے والا۔ کہا جاتا ہے: هو جَوَّالَةٌ جَوَّابَةٌ: وہ بہت گھومنے پھرنے والا ہے، اور اس نے بہت سفر کئے ہیں۔ الأَجْوَل: اسم تفضیل: بہت گھومنے پھرنے والا۔ المَجَال: چکر لگانے کی جگہ، جہاں گھوما پھرا جاتا ہو۔ المِجْوَل: چھوٹا لباس جس میں لڑکی گھومتی پھرتی ہے۔ کرتی ڈھال۔ جَوَلَانُ الهُمُومِ: غموں کا آغاز۔ الأَجْوَلِيّ: بہت چکر لگانے والا تیز رفتار گھوڑا۔

۲۔ جَالَ ـُ جَولاً الشيءَ: کو پسند کرنا۔ اِجْتَالَ منهم جَولاً: میں سے کو پسند کرنا۔ الجَوَالَة من الشيءِ: چیز کا بہتر حصہ۔

۳۔ جَالَ ـُ جَولاً الترابُ: مٹی کا نہ رہنا۔ جَاوَلَ مُجَاوَلَةً ہ: ایک دوسرے کو دھتکارنا، ہٹانا۔ اِنْجَالَ الغبارُ: گرد و غبار کا اوپر اٹھ کر پھیل جانا۔ اِجْتَالَ الرجلُ الشيءَ: کو لے جانا، کو مسترد کرنا۔ ـ أَموَالَهم: کو لیجانا۔ اِسْتَجَالَ اِسْتِجَالَةً أَموالَهم: کو لیجانا۔ الجَوْل و الجُوْل: وہ مٹی جسے ہوا سطح زمین پر اڑاتی پھرے۔ الجَوْلان و الجُولان: وہ مٹی جسے ہوا ادھر ادھر گھمائے۔ يوم أَجْوَل: بہت گرد و غبار والا دن۔

۴۔ الجَال و الجُول جمع جِوَال و جُوَال و جِوَالَة و جُوَالَة و أَجْوَال: قبر یا کنویں کی دیوار۔ (کہا جاتا ہے: ما لهُ جالٌ او جُولٌ: اس کا نہ تو کوئی مضبوط ارادہ ہے نہ رائے)، پہاڑ کا پہلو۔ جُولُ القبر: قبر کا اردگرد۔ الجَوْل (مص) جمع أَجْوَال: گھوڑوں یا چوپایوں کا گلہ، ریوڑ۔ الجَوَلان (مص): مال کے چھوٹے یا ردی حصے۔ المِجْوَل: پازیب، تعویذ، ہار کے وسط میں چاندی کا ہلال۔ المُسْتَجِيل: بے وقوف۔

○ جَالَ ـُ جَولاً و جَولَةً و تَجْوَالاً و جَوَلانًا: ادھر ادھر پھرنا، گھومنا۔ ـ في: میں آزادی سے حرکت کرنا، (کسی علمی میدان میں) مشغول ہونا، میں لگا رہنا۔ ـ في/ب: دل میں آنا۔ جال برأسه: کو سوچ میں غرق کرنا، کی توجہ کو منہمک کرنا۔ ما يَجُولُ في خاطِرِهِ (یا بِخاطِرِهِ)؟ اس کے دل میں یا ذہن میں کیا ہے، وہ کس چیز میں مشغول ہے؟ جَالَ الدمعُ في عينيه: اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ جالت يدهُ في: اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اس نے کسی چیز کا غبن کیا۔ أَجَالَ ہ: کو گردش دینا، چکر دینا۔ أَجَالَ الرأيَ في: کا پوری طرح اندازہ کرنا، کو بغور سوچنا۔ أَجَالَ النظرَ: نظر ادھر ادھر پھرانا، ادھر ادھر دیکھنا۔ تَجَوَّلَ: گھومنا، پھرنا، دورہ کرنا، ادھر ادھر چکر لگانا، گشت کرنا، سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا، ادھر ادھر سفر کرنا۔ جَولَة جمع جَوْلات: دورہ، گشت، تفریحی سفر، سیر، سیاحت، سمندری سفر، بحری سفر، جہاز کا سفر، جہاز کا دن بھر میں سفر، ہوائی جہاز کی پرواز۔ رن (کھیلوں میں)۔ جَوَّال: گھومنے پھرنے والا، نقل مکانی کرنے والا، سفر کرنے والا، مسافر، سیاح، سیر گشت کرنے والا، متحرک، حرکی۔ رامٍ جَوَّال جمع رُماة جَوَّالَة: رائفل بردار فوجی۔ جَوَّالَة: گھومنے پھرنے یا سفر کرنے کا عادی، سیلانی، پیادہ رو، راہ گیر، راہی، موٹر سائیکل، تیز رو جنگی جہاز۔ تَجْوَال: نقل وطن کرنا، ادھر ادھر گھومنا، پھرنا، سفر کرنا، خانہ بدوشانہ زندگی، خانہ بدوشی، بادیہ گردی، صحرا نوردی۔ جَوَلان: ترک وطن، نقل مکانی، گھومنا، پھرنا، سفر کرنا، خانہ بدوشانہ زندگی، خانہ بدوشی، بادیہ گردی، صحرا نوردی۔ جَوَلانُ اليد: غبن، دست برد، خیانت۔ مَجَال جمع مَجَالات لِ: کے لئے جگہ گنجائش، میدان، خیال و عمل کا میدان، دائرہ، حلقہ، وسعت، حد، دسترس، رسائی، سلسلہ، آزادی سے حرکت کرنے اور ہلنے کی جگہ، کھلی جگہ، ہلنے جلنے کی کافی جگہ۔ ما ترَكَ مجالاً للشك: شک کی گنجائش نہ چھوڑنا۔ لا مجالَ للطعن فيه: یہ نا قابل تردید ہے۔ في هذا المجال: اس سلسلہ میں۔ وَدَعَ المجالَ أَمامَه فسيحًا: کو کھلی چھٹی دے دینا، کارروائی کے تمام مواقع دینا۔ مَجَال حَيَوِيّ: زندہ رہنے کے لئے جگہ۔ مَجَالُ العملِ: میدان عمل، سرگرمیوں کا میدان۔ مجالٌ مَغْنَطِيسِيّ: دلکش میدان، مقناطیسی میدان۔ تَجَوُّل: گھومنا، پھرنا، آوارہ گردی کرنا، نقل مکانی، ترک وطن، باہر جانا، ادھر ادھر حرکت کرنا، گشت، سیاحت، سفر، سفر کرنا۔ مَنع التَجَوُّل: کرفیو curfew۔ بائِع جائِل جمع باعَة جائِلون: پھیری والا، خوانچہ والا، ٹھیلے والا، بساطی۔ مُتَجَوِّل: گھومنے پھرنے والا، سیلانی، ترک وطن کرنے والا، مسافر، سیاح، چلتا پھرتا ہوا، خانہ بدوش، سفری، دورہ کرنے والا، متحرک، حرکی۔ وكيل مُتَجَوِّل: سفر کرتے ہوئے بیچنے والا۔ بَيَّاع مُتَجَوِّل: پھیری والا، خوانچہ والا، ریڑھی والا، ٹھیلے والا، بساطی، قسیس۔ مُتَجَوِّل: مسافر مبلغ، واعظ۔

○ جَوْلف: گاف کا کھیل۔

جام: جَامَ ـُ جَومًا: بھلی یا بری چیز طلب کرنا۔ الجام جمع جامات و أَجْوَام و أَجْؤُم و جُوم: پیالہ (فارسی لفظ)۔ الجُوَيْمَة: چھوٹا پیالہ۔

جان: ۱۔ جَانَ ـُ جَونًا: کالا ہونا۔ تَجَوَّنَ بابَ الميت: مردے کا دروازہ سیاہ کرنا۔ الجَون جمع جُوْن (ضد): سیاہ، کالا، سیاہی مائل سبز سبزی۔ ـ من الخيل و الإبل: بہت سیاہ گھوڑا یا اونٹ۔ الجَونَة: کوئلہ، ڈوبتے وقت کی سورج کی ٹکیا۔ الجُونِيّ جمع جُون (ح): قطا پرندہ کی ایک قسم جس کا سینہ اور بازو سیاہ ہوتے ہیں۔ الجَوناء: ہانڈی، سیاہ اونٹنی۔

۲۔ تَجَوَّنَ بابَ العروس: دلہن کے دروازے پر سفیدی کرنا۔ الجَون جمع جُون: سفید دن۔ الجَوناء: سورج۔

۳۔ الجَون جمع جُون: خالص سرخ۔ الجُون جمع أَجْوَان: چھوٹی خلیج۔ الجَونَة: تارکول لگا ہوا مٹکا، عطاروں کی چمڑے کی ٹوکری۔

○ جُون جمع أَجْوَان: خلیج، کھاڑی۔

○ جَونَلَة، جَونلا و جَونِيلَة جمع جَونلات: سایا، لہنگا۔

جاه: ۱۔ جَاهَ ـُ جَوهًا الرجلَ بالمكروه: سے ناپسند طریقے سے پیش آنا۔

۲۔ جَوَّهَ تَجْوِيهًا و أَجَاهَ إِجَاهَةً ہ: کو صاحب مرتبہ بنانا۔ تَجَوَّهَ: بڑا ہونا، جاہ والا بننا۔ الجاه و الجاهة: قدر و شرف اور بلندیٔ مرتبہ۔

۳۔ الجَوهَر واحد جَوهَرَة جمع جَوَاهِر: جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اس کے مقابل عَرَض کہلاتا ہے، وہ پتھر جس سے مفید چیز نکالی جائے۔ الجَوهَرُ الفرد: وہ چیز جو نا قابل تقسیم ہو، ایٹم۔ جَوهَرُ الشيءِ: چیز کی طبیعت، اصلیت یا فطرت۔ جوهرُ السيف: تلوار کا جوہر۔ الجَوَاهِرُ العلوية: افلاک، ستارے یا ارواح۔ الجَوهَرِيّ:

جوہر کی جانب منسوب، جوہر کا جوہر کے متعلق۔ ضروری ولازم (عَرَضی کا مقابل)، جوہر بنانے اور بیچنے والا۔

○ تَجَوهَرَ: چیز یا اصل ہوجانا۔ جَوْهَر جمع جَوَاهِر: اصلی اور لازمی طبیعت، جوہر، اصل، روح، کسی چیز کا مافیہ۔ وہ جس میں صفات کا ظہور ہو، مادہ، ہیولی، ایٹم، قیمتی پتھر، نگ، نگینہ، گوہر، ترشا ہوا گوہر (جمع جواہر) جمع: جواہرات، زیور، زیورات۔ الَـــــزَيْف و الـجَوهَر: نقلی اور اصلی۔ جَـوهَرى: اصل، اہم، خاص اہمیت کا حامل، معقول، ذاتی، اصلی، حقیقی، لایفنک، پیدائشی، جبلی، خلقی، بنیادی، ابتدائی، مرکزی، ضروری، اساسی، خاص، بڑا سب سے اہم، اول، اعلی، سُنار، جوھری۔ جـوهـرجـى: سُنار، جوہری۔ مَـجَوْهَرَات: جڑاوزیور، زیورات، جواہرات، لعل، نگینے، گوہر، قیمتی پتھر۔

جوی: ا۔ جَوَّى تَجْوِيَةً السقاءَ: مشک میں پیوند لگانا۔ الجُوَّة: مشک کا پیوند۔

۲۔ الجَوّ جمع جِوَاء و اَجْوَاء: آسمان اور زمین کی درمیانی فضا، کشادہ وادی، کشادہ میدان۔ جَوّ كل شيء: ہر چیز کا اندرونی اور بیرونی حصہ۔ ــ البيت: گھر کا اندرونی حصہ۔ ــ الماء: زمین کا وہ قطعہ جو پانی کے لئے کھودا جائے۔ الـجُوَّة: پہاڑ وغیرہ کا گڑھا، زمین کا سخت ٹکڑا، لوہے کا زنگ، گندم گوں رنگ۔ الـجَوَّانِيّ: جو کی طرف منسوب، گھریلو، اسکا مقابل بَرَّانی ہے۔ الـطائِرة الجَوْمانية: وہ طیارہ جو ہوا میں بھی اڑتا ہو اور پانی پر بھی تیر سکے۔

جـوى: ا۔ جَـوِيَ ـجَـوًى: میں غم یا عشق کے باعث سوزش وجلن کا پیدا ہونا۔ الـجَوَى (مص) غم وعشق کے باعث پیدا ہونے والی سوزش وجلن۔ الـجَوِى: عاشق۔

۲۔ جَوِيَ ـجَوًى الشيءَ: کو ناپسند کرنا۔ ــتِ نفسُه من البلد و عن البلد: کیلئے ملک یا شہر کی آب وہوا ناموافق ہونا۔ اِجْتَوَى البلدَ: کسی شہر میں اقامت کو ناپسند کرنا۔ ــ و اِسْتَجْوَى الطعام: کھانے کو ناپسند کرنا۔ الـجَوَى (طب): کسی شہر یا ملک کے ناموافق ہونے سے پیدا ہونے والی سینے کی ایک بیماری؛ بیماری کا طول پکڑ جانا، مبتلائے سوزش عشق۔ الـــجَــوِى (طــب): سوزش عشق کا مریض۔ الـجَوِى مؤنث جَوِيَّة: تنگ سینے والا۔

۳۔ جَوِيَ ـجَوًى الماءُ: پانی کا بدبودار ہونا۔ الجَوِى: بدبودار۔ الجِيّة جمع جِيّ: بدبودار پانی وغیرہ، پانی کا جوہڑ۔

۴۔ جَاوَى مُجَاوَاةً بالابل: اونٹوں کو پانی پر بلانا۔

۵۔ الـجِوَاء: کشادہ وادی، زمین کا اندرونی حصہ، چرواہے کا تھیلا، وہ چیز جس پر ہانڈی رکھی جائے۔

○ جَـوِيَ ـجَـوًى: عشق یا غم سے جذباتی طور پر جوش میں آنا یا بھڑکنا۔ جَـوًى: عشق، جذبہ، بے حد شوق، سرگرم محبت۔

جاء: ا۔ جَـاءَ يَجِيءُ و يَجُوءُ مَجِيئًا و مَجِيئةً و جَيْئًا و جَيْئَةً: آنا۔ ــ به: کو لانا۔ ــ ہ و اليه: کے پاس آنا۔ جَا آني و جَـايَأني فَجُئْتُهُ: اس نے کثرت آمد میں مجھ سے مقابلہ کیا تو میں اس پر غالب آ گیا۔ اَجَـاءَ ہ: کو لانا، پر آنے کو لازم ٹھہرنا۔ الـجَيْئَة (مص): ایک بار کا آنا۔ الجِيئة جمع جِيآت: آنا۔

۲۔ جَاءَ الشيءَ کو کرنا صفت: جاءٍ مؤنث: جائِيَة۔

۳۔ الجَيْئَة: پیپ اور خون، ٹکڑا جس سے جوتے میں پیوند لگایا جائے۔

○ جَاءَ يَجِيءُ مَجِيئًا ہ / ہ: کے پاس آنا، ــ ہ تک پہنچنا، ــ ہ کسی جگہ پہنچنا۔ ــ: آنا۔ ــ ب کوئی چیز لانا۔ ــ ہ ب: کے پاس کوئی چیز لانا۔ ــ ب کو بنانا، (بچے یا پھل) دینا، کوئی چیز پیش کرنا۔ ــ: کرنا، ــ ہ: کا ارتکاب کرنا۔ ــ في (مضمون وغیرہ) میں واقع ہونا، ذکر کیا جانا، کہا جانا۔ کے بعد (مضارع آئے تو) کچھ کرنے لگنا۔ جَاءَ في جريدة الاهرام أن ــ اخبار الاہرام میں خبر ہے کہ...... جَـاءَ من باريس أن: پیرس کی ایک خبر (کہتی) ہے کہ۔ جـاءت نتائِجُه مُـطـابِـقَةً لِ: اس کے نتائج کے مطابق یا موافق ہوئے۔ جِيئَة و جَيْئَة: آنا، آمد۔ جِيئة و ذَهَابٌ: آنا جانا۔ ذهب جيئة و ذهابًا: چہل قدمی کرنا۔ مَجِي: آنا، آمد۔ الجَائِيات آنے والی چیزیں۔

جاب: ا۔ جَابَ ـجَـيْبًا البلادَ: ملک کو طے کرنا۔ ــ القميصَ: قمیص کا گریبان کاٹنا۔ جَيَّبَ القميصَ: قمیص کا گریبان بنانا۔ الـجَيْب جمع جُيُوب من القميص: گریبان، عام لوگوں کے نزدیک، جیب۔ جيب الارض: زمین میں داخل ہونے کی جگہ۔

۲۔ الـجَيْب جمع جُيُوب: دل، سینہ۔ کہا جاتا ہے: ناصح الجيب صادق و امين۔

○ جَيْب جمع جُيُوب: سینہ، دل۔ سوراخ، گڑھا، غار، وادی، درہ، کھدائی، جیب، بٹوہ۔ الـجيب الخاص: صرف، خاص، خاصہ۔ تـمـام الـجيب و جيب التمام: (ایک زاویہ میں) ایک زاویہ قائمہ میں اس زاویہ کی ساتھ کی نسبتاً چھوٹی طرف کی سب سے بڑی طرف کی نسبت یا تناسب۔ ساعة الجيب جیب گھڑی۔ مـصـروف الـجيب جیب خرچ۔ الـجيوب الانفية ناک کی نالیاں۔ جُيُوبُ المُقَاوَمَة: گھرے ہوئے علاقہ میں متعین مزاحمتی فوجیں۔ جيبي جیب کا، جیب کے متعلق۔ جيب و سيارة جيب جیپ (jeep)

○ جيت: چھینٹ (کپڑا) چھپا ہوا کپڑا۔

جاح: جَاحَ يَجِيح جَيْحًا و جَائِحَةً اللّٰهُ القومَ: اللہ تعالیٰ کا قوم کو جڑ سے اکھیڑنا، ہلاک کرنا۔

جاخ: جَاخَ يَجِيخ جَيْخًا السيلُ الوادىَ: سیلاب کا وادی کے کناروں کو بہالیجانا۔

جـاد: جَـادَ و جَـيِدَ يَجَـادُ جَيَدًا: لمبی اور خوبصورت گردن والا ہونا صفت: اَجْيَـد مؤنث جَيْـداء و جَيدانَة جمع جُود۔ الجِيد جمع اَجْيَاد و جُيُود: گردن اور کبھی جَید گردن کی صفت بن کر آتا ہے۔ ایسی صورت میں کہا جاتا ہے: عُـنُـقٌ اَجْيَـد: لمبی اور خوبصورت گردن۔

جبـر: ا۔ جَبَّـرَ الـحـوضَ حوض کو گچ کرنا، چونہ کی استرکاری کرنا۔ الـجِبـر (ك) گچ، چونہ، سیمنٹ۔ الجَبّار (ك): بے بجھا چونہ۔ ــ و الجائر غصہ یا بھوک کے سبب سینہ کی سوزش۔ مُجَبَّـر گچ کیا ہوا۔ حوض مُجَبَّر: گچ کیا ہوا حوض۔

۲۔ جَيْرِ حرف جواب۔ نعم (ہاں) کے معنی میں۔

۳۔ جَيَّـرَ السندَ (ت): پرونوٹ وغیرہ کی پشت پر دستخط کرنا۔ الجير و ظہری تصدیق۔

۴۔ مُجَيَّر گہرا کیا ہوا، کھودا ہوا۔

○ جَيْـرِ: یقینا، واقعی۔ جِيـر: چونہ۔ جِيري: چونہ کا، چونے کے متعلق۔ جَيَّـارَة: چونے کی بھٹی۔ جَيَّـر: ظہری تصدیق کرنا۔ جِيرُو ظہری تصدیق۔

○ جِيـزَة: شمالی مصر کے ایک شہر کا نام، مصری کپاس کی ایک قسم۔

جاش: ا۔ جَاشَ ـجَيْشًا و جَيَشَانًا و جُيُوشًا ت النفسُ: جی متلانا۔ ــ الصدرُ: سینہ یا دل کا مارے غضب کے ابل پڑنا، جوش میں آنا۔ ــ ت القِدرُ: ہانڈی کا ابلنا۔ ــ ت الحربُ بينهم: کے درمیان لڑائی کا تیز ہوجانا۔ ــ البحرُ: سمندر کا جوش میں آنا۔ ــ الوادىُ: وادی کا موج مارنا۔ ــ ت العينُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ ــ الميزابُ: پرنالہ کا خوب اچھی طرح بہہ پڑنا۔ ــ ت نفسُ الجبانِ: بزدل کا ڈر کر بھاگنے کا ارادہ کرنا۔ تَـجَيَّـشَ ـتِ نـفـسُـه: کا جی متلانا۔ الجَائِشة: نفس۔ الجَيْشَة جمع جَيْشات: جاش کا اسم مرۃ۔ الجَيّاش متحرک، مضطرب۔

۲۔جَیَّشَ الجیوشَ: فوجوں کو جمع کرنا۔تَجَیَّشَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔اِستَجاشَ الجیشَ: لشکر کو جمع کرنا۔ــــ الامیرَ: حاکم سے لشکر اور کمک مانگنا۔ــــ القومَ: لوگوں کو مدد دینے پر برانگیختہ کرنا۔

الجیش جمع جُیُوش: فوج، لشکر۔

۳۔الجِیش (ن): ایک قسم کی لمبی نبات۔

○ جیش: جَاشَ ـجَیشَانًا: جوش میں آنا، بھڑکنا، مشتعل ہونا، برانگیختہ ہونا، ہیجان میں آنا، بگڑنا، آگ بگولہ ہونا، طیش میں آنا، طوفان برپا کرنا، سخت خفا ہونا، آفت مچادینا، کھولنا، جوش کھانا، گرم ہونا، غصے سے پیچ و تاب کھانا۔جَیَّشَ: فوج بھرتی کرنا، جمع کرنا، فوج کو حرکت میں لانا، فوج کو لڑائی کے لئے تیار کرنا، جنگ کے لئے فوج اکٹھی کرنا۔اِستَجاشَ ہ: (فوج) جمع کرنا، اکٹھا کرنا، (فوج) کو حرکت میں لانا، لڑائی کے لئے تیار کرنا۔ــــ انصارًا: پیروکاروں کو حرکت میں لانا، اکٹھا کرنا۔جیش جمع جُیُوش: بری فوج، فوجی دستے، مسلح افواج۔جیش الاحتلال: قبضہ کرنے والی فوج۔جیشٌ اِحتِیاطِي: ریزرو فوج، فاضل فوج۔جیشٌ مرابطٌ: علاقائی فوج، وطنی فوج، داخلی فوج۔جیشُ الإنقاذ: مکتی فوج۔جیشُ المَسَاء: شام کا دھندلکا، جھٹپٹا۔جَیَّاش: مضطرب، ہیجان میں، ہیجان زدہ، جذباتی، جوشیلا، برانگیختہ، مشتعل، جوش میں آیا ہوا، کھولتا ہوا، گرم، غصہ سے پیچ و تاب کھایا ہوا، پرجوش، ابلنے والا، آپے سے باہر ہونے والا، جوش یا ابال کی حالت میں، لطف سے جوش میں آیا ہوا، خوشی سے ہیجان میں آیا ہوا۔جَیَشان: اشتعال، برانگیختگی، جوش، ہیجان، خیالات کا الجھاؤ، ہلچل، اضطراب، پریشانی، شورش، طیش۔

جاض: ۱۔جَاضَ ـجَیْضًا و جَیَّضَ تجییضًا عنه: سے منحرف ہونا، الگ ہوجانا، بچنا۔الجَیضَة: دائیں بائیں جھکاؤ۔الجَیض و الجَیَّضَی: متکبرانہ چال۔

۲۔جَایَضَ ہ: سے شان و شوکت میں مقابلہ کرنا۔

جاظ: جَاظَ ـجَیظَانًا: تکبر سے چلنا، صفت: جَیَّاظ۔ــــ بَحَمْلِهِ: بھاری بوجھ اٹھا کر چلنا۔

جاف: جَافَ ـجَیْفًا و جَیَّفَ و تَجَیَّفَ و اجْتَافَ و اِنْجَافَت الجُثَّة: لاش کا سڑ جانا، بدبودار ہونا۔الجِیفَة جمع جِیَف و أَجْیَاف: مردہ کی گلی سڑی اور بدبودار لاش۔

○ جِیکِي: جمہوریہ چ کا باشندہ زچ۔اس کے اطراف میں پولینڈ، جرمنی، آسٹریا اور سلوواکیا کے ممالک واقع ہیں۔

جیل: الجِیل جمع اَجْیَال و جِیلان: لوگوں کی ایک صنف، ایک زمانہ کے لوگ، صدی۔

○ جِیل جمع اَجْیَال: لوگ، قوم، قبیلہ، نسل، پود، نژاد، صدی، دور، زمانہ، سن۔

جِیلاَتی: آئس کریم۔

جیم: الـجِیـم: حروف تہجی کا پانچواں لفظ (مذکر و مؤنث) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

جیه: الجَیْهَل و الجَیْهَلَة: انگارے ہلانے کی لکڑی، کریلنی۔ صَفَاةٌ جَیْهَلٌ: بڑا پتھر۔

جیو: ۱۔الجِیُودیزیة (ہ): زمین کی مساحت کا علم۔ النقطة الجیودیزیة: وہ نقطہ جس سے ملکوں کی حدود کا قیاس کیا جاتا ہے، (یونانی لفظ)۔

۲۔الجِیُولوجیا (ط ا): ارضی طبقوں اور ان کی قدرتی ہیئت کا علم (یونانی لفظ)۔

○ جِیُوغَرَافِیا: جغرافیہ۔الجیوغرافیا البَشَرِیَّة: بشریاتی جغرافیہ arthropo geography۔

○ جیوفیزیا: geophysics، زمین کی طبعی سرگرمیوں یعنی زمین کے کرہ ہوائی، آب و ہوا اور سمندروں کا علمی مطالعہ۔جیوفیزیانی: جیوفیزیا کا یا کے متعلق۔ السنة الجیوفیزیانیة: جیوفزیائی سال۔ جیوفیزیقي: بمعنی جیوفیزیائی۔

○ جِیُولَوجِیا: علم طبقات الارض، ارضیات geology۔ جیولوجی: ارضیاتی۔

ح

ح: تلفظ حا۔ حروف تہجی کا چھٹا حرف اور حروف ابجد میں آٹھ کا عدد ہے۔

حب: ا۔ حَبَّ ۔ حُبًّا و حِبًّاہ: سے محبت کرنا۔ ۔ الشیَّ: سے رغبت کرنا۔ ۔ ُ و حَبُبَ ۔ُ الیہ: کا محبوب ہونا، حَبَّبَ ہ اِلی: کو کا محبوب بنانا، پیارا بنانا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ حَبَّبَنی ایاہ: اس نے مجھ کو اس کا محبوب بنایا۔ حَابَّ مُحَابَّۃً و حِبابًاہ: باہم محبت و الفت کرنا، باہم دوستی کا اظہار کرنا۔ اَحَبَّ ہ: سے محبت کرنا، پیار کرنا، یہ حبّ سے زیادہ مستعمل ہے۔ صفت فاعلی۔ مُحِبّ: صفت مفعولی: مَحْبُوب و مُحَبّ، تَحَبَّبَ الیہ: سے محبت و دوستی کا اظہار کرنا تَحَابَّ القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اِسْتَحَبَّ ہ: سے محبت کرنا، کو پسند کرنا، کہا جاتا ہے۔ اِسْتَحَبَّ الکفر عَلَی الایمان: اس نے کفر کو ایمان پر فضیلت دی۔ الحِبّ جمع اَحْبَاب و حِبَّان و حِبَبَۃ و حُبّ و حُبُوب: عاشق، محبوب، الحُبَّۃ جمع حُبَب: محبوب، محبوبہ، کہا جاتا ہے: ھذا حُبَّتُك: یہ وہ چیز ہے جس کا مل جانا آپ کو پسند ہے۔ اور کہا جاتا ہے۔ نعم وحُبَّۃً و کرامۃً: جیسے کہا جاتا ہے حُبًّا و کرامۃً: ہاں محبت اور احترام کی وجہ سے، بڑی خوشی سے۔ حَبَّۃُ القلب: دل کا دانہ یا روح۔ کہا جاتا ہے: اَصَابَتْ حَبَّۃَ قلبہ: اس کی محبت نے اُسے والا و شیدا کر دیا، فریفتہ کر دیا۔ المُحِبّ (فا): کہا جاتا ہے: امرأۃٌ مُحِبَّۃٌ لزوجھا و مُحِبٌّ لہ: اپنے خاوند سے محبت کرنے والی عورت۔ المَحَبَّۃ: مرغوب شے کی طرف طبیعت کا میلان۔ الحُبَاب: محبت، دوستی، محبوب، انتہائی محبت، دوستی یا کوشش کہا جاتا ہے: حُبَابُك اَن تفعلَ کذا: تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ ایسا کرو۔

الحَبِیب جمع اَحِبَّۃ و اَحِبَّاء و اَحْبَاب: محبّ، محبوب، آپ کہتے ہیں: اَنَا حبیبُکُم: میں تمہارا محبّ ہوں۔ آپ کہتے ہیں: ھذا حبیبی یہ میرا محبوب ہے الحَبَّاب: حَبّ کا اسم مبالغہ۔

۲۔ حَبَّ و اَحَبَّ الزرعُ: کھیتی کا دانہ دار ہونا۔ الحَبّ: جمع حُبُوب و حُبَّان واحد حَبَّۃ جمع حَبَّات: دانہ، (طب) (دوا) کی گولی۔ حَبُّ الغمام: ژالہ، اولہ۔ الحَبَّۃُ السوداء: (ن) کلونجی۔ ۔ الخضراء (ن) گندہ بروزہ کے درخت کا پھل۔ الحُبَّۃ جمع حُبَب (ن) انگور وغیرہ کا بیج۔

۳۔ حَبَّبَ القِربَۃَ: مشک بھرنا۔ تَحَبَّبَ من الشراب: بڑے مٹکے کی طرح پھول جانا۔ الحُبّ جمع حِبَاب و حِبَبَۃ و اَحْبَاب: بڑا گھڑا یا مٹکا۔ الحَبَّاب: کمہار، گھڑے مٹکے بنانے والا۔

۴۔ الحَبَب: دانتوں کی برابر قطار۔ ۔ والحَبَاب: بلبلہ (پانی یا شراب پر ابھرنے والا)۔ حَبَبُ الماء او الرمل و حِبَبُہ: پانی یا ریت کا بڑا حصہ۔ الحَبَّۃ: دو جو کے برابر ایک وزن کا نام، دینار کا سولھواں حصہ۔ الحُبَاب (ح): سانپ اُمّ حُبَاب: دنیا۔ الحُبَاب جمع حُبَاب (ح) ایک سیاہ آبی کیڑا۔

۵۔ حَبْحَبَ حَبْحَبَۃً الماءُ: پانی کا تھوڑا بہنا۔

۶۔ حَبْحَبَ حَبْحَبَۃً النارُ: آگ کا بھڑکنا الحُبَاحِب (ح): جگنو، جگنو کی دم میں چمکتی ہوئی روشنی نارُ الحُبَاحِب: ضعف و کمزوری کے معنی میں بطور مثل بیان کیا جاتا ہے، گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی چنگاری جب وہ کسی پتھریلی زمین پر دوڑتا ہے۔

۷۔ الحَبْحَاب جمع حَبَاحِب پستہ قد شخص، بدشکل، بدخلق، المُحَبْحِب بری غذا کھانے والا۔

○ حَبَّبَ اِلی ہ/ھ: میں کسی شخص یا چیز کی محبت یا پسند کے جذبات ابھارنا، کی سے محبت کرنے یا پسند کرنے کا باعث بننا۔ ۔ ہ اِلی: کو کی نظر میں مقبول، پیارا یا عزیز بنانا، کو کے لئے محبوب، قابل محبت یا دلکش یا دلربا بنانا، کو کیلئے قابل قبول یا خوشگوار یا پسندیدہ بنانا، کی سے سفارش کرنا، کا کو مشورہ دینا، کا کو خیال دلانا، کی کو تجویز پیش کرنا۔ اَحَبَّ ہ/ھ: سے محبت کرنا کو پسند کرنا۔ (حَبَّ ۔ حُبًّا و مَحَبَّۃً ہ/ھ کا بھی یہی معنی ہے) اَحَبَّ اَن: کو کرنے کی خواہش کرنا، کو کرنا چاہنا، کو کرنا پسند کرنا، اُحِبُّ اَن: مجھے چاہئے کہ۔ اُحِبُّ لہ اَن: کے بارے میں پسند کرتا ہوں کہ وہ...... لا یُحِبُّ الخیر لہٗ: وہ نہیں چاہتا کہ وہ خوش ہو، وہ اس کی ہر چیز ناپسند کرتا ہے۔ تَحَبَّبَ اِلی: سے محبت کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو کا محبوب بنانا، اپنے آپ کو کے نزدیک پسندیدہ بنانا، کے دل میں گھر کرنا، کا مورد عنایات ہونا، کسی عورت سے عشق بازی کرنا، اس کے کرم کا خواستگار ہونا، سے شادی کی نیت سے محبت کرنا۔ تَحَابَّ: ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اِسْتَحَبَّ ہ: کو پسند کرنا، کو مرغوب، پسندیدہ یا مناسب سمجھنا، قابل تعریف یا قابل سفارش سمجھنا۔ حُبّ: محبت، لگاؤ، الفت، چاہ، حُبُّ الذات: انانیت، حب ذات، حُبُّ الاستطلاع: تجسس، اشتیاق، لگن (جاننے کی) حُبُّ الوَطَن: حب وطن، حب الوطنی۔ حُبًّا لِ: سے محبت کی وجہ سے، سے لگاؤ کی خاطر، سے دوستی کے باعث حُبًّا فی: کی خواہش میں۔ حُبِّی: دوستانہ، محبت کرنے والا حُبِّیًّا: دوستانہ انداز میں، دوستانہ طور پر، آشتی سے منصفانہ یا جائز طریقے سے۔ حِبّ جمع اَحْبَاب: محبوب، پیارا، عزیز

ترین، پسندیدہ۔ مُحَاب: مقصد، مدعا۔ حَبِیب جمع اَحِبَّاء واَحِبَّة واَحْبَاب: محبوب، عاشق، معشوق، عزیز، دوست۔ ــــ إلی: کا محبوب، عزیز، مقبول۔ الاحباب: محبوب لوگ، عزیز لوگ، اعزہ۔ حَبِیبَة جمع حَبَائِب: محبوبہ، معشوقہ۔ اَحَبُّ: زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ، زیادہ مرغوب۔ ــــ إلی: کے لئے قابل ترجیح۔

حَبَّذَ: کتنا عمدہ، کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا اعلیٰ، کتنا شاندار۔ کتنا بے عیب۔ حَبَّذَا لو: کتنا عمدہ ہو اگر۔ حَبَّذَ الحالُ لو فَعَل: اگر وہ ایسا کرے تو عمدہ ہوگا، یا اچھا ہوگا۔ یا حَبَّذَا الحالُ: یہ تو بہت حیرت انگیز ہے۔ مَحَبَّة: محبت، لگاؤ، الفت۔ مَحَبَّةُ الوطن: حب وطن، حب الوطنی۔ تَحَبُّب: شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی میں راز و نیاز کی باتیں۔ شادی خواہ معاشقہ یعنی شادی کرنے کی غرض سے عشق کرنا۔ تَحَابُب: باہمی محبت، ہم آہنگی، مطابقت۔ مَحْبُوب: محبوب، پیارا، عزیز، قابل محبت قابل خواہش، مقبول، ہر دل عزیز، عاشق، جمع مَحَابِیب: سونے کا ٹکڑا، ایک چھوٹی چمکدار گول ٹکیا جو کپڑے پر آرائش کے طور پر سی کر لگائی جاتی تھی (عثمانی دور میں)۔ مَحْبُوبَة: محبوبہ۔ مُحَبَّب إلی: کے لئے خوشگوار، مرغوب، پسندیدہ، دل پسند، خاطر خواہ، قابل محبت، عزیز، دل پذیر، موافق، سہانا، مُحَبَّب: عمدہ، مرغوب، پسندیدہ، پسندِ خاطر۔ مُحِبّ جمع مُحِبُّون: محبت کرنے والا، عاشق، شوقین، شائق، کھیل وغیرہ کا رسیا، دوست۔ مُحِبٌّ للناس: انسان دوستی کا مشفقانہ، خوش اخلاق، خلیق، خندہ جبین۔ مُحِبُّنَا العزیز: ہمارا عزیز دوست۔ مُحِبُّو الآثار: اثریات کے کفیل۔ مُحِبٌّ لِذَاتِه: خود غرض۔ مُتَحَابٌّ: ایک دوسرے سے محبت کرنے والا۔ ہم آہنگ۔ مُسْتَحَبّ: قابل تعریف، قابل سفارش، خاطر خواہ پسندیدہ (ایسا عمل جسے نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہ ملے لیکن جس کا کرنے پر صلہ دیا جائے)۔ بہت پسندیدہ، ہر دلعزیز، مقبول، عام پسند (کیا ہوا)۔

حَبَّ: پودے کا دانہ دار ہونا، انگور بندھنا۔ ــــہ: کو دانہ دار کرنا۔ اَحَبَّ: دانہ دار ہونا۔ حَبّ (واحد حَبَّة): بیج، تخم، اناج، غلہ، دانہ، گودا، مغز، گری، بیج کا حصہ، (دوائی کی) گولیاں، بغیر گٹھلی کے پھل، کوز، مہاسے، مسے، آبلے، چھالے، پھنسیاں۔ حَبَّة جمع حَبَّات: دیکھو حَبّ جمع حَبَّات: منکے، دانے، (تسبیح کے) حَبَّةُ العین: آنکھ کا ڈھیلا، آنکھ کی پتلی۔ حَبَّةُ القلب: عزیز ترین (شخص) محبوب۔ حَبَب: چھالہ، آبلہ۔ حُبَیْبَة جمع حُبَیْبَات: چھوٹا دانہ، چھوٹی گری، چھوٹا مہاسا یا کیل، یا چھالہ یا آبلہ۔ حُبَیْبِیّ: دانے دار، دانے کی شکل کا انگور بندھا۔ الرمدَ الحُبَیْبِیّ: آنکھ کی ایک بیماری جس میں پپوٹے کے اندر دانے نکل آتے ہیں۔ حُبْحَب: تربوز۔ حُبَاحِب: جگنو، کرمک شب تاب۔ حَبَّذَہ: کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، کے متعلق اچھی رائے رکھنا، کی تعریف کرنا۔ ــــہ / ہا: کو باآواز تحسین و آفرین کہنا، واہ واہ کہنا، کو خوش آمدید کہنا، مرحبا کہنا، کیلئے نعرہ ہائے شادمانی بلند کرنا، کو شاباش دینا یا کے لئے شاباش کے نعرے لگانا، کے لئے نعرہ ہائے تحسین لگانا۔ تَحْبِیذ: پسند، پسندیدگی، پرجوش تائید، بلند تائید، واہ واہ، باآواز، تحسین و آفرین، تحسین و آفرین کہنا۔

حبج: حَبَجَ ـ حَبْجًاهُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ وأَحْبَجَ: نزدیک ہونا، ظاہر ہونا۔ ــــ الامرُ: اچانک ظاہر ہونا۔ حَبِجَ ـ حَبَجًا و ــ حُبَاجًا: متورم اور پھولے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صفت: حَبِج۔ الحَبَج (مص): سدہ کی شکل کی پیٹ کی مینگنیاں۔

حبذ: حَبَّذَہ: کسی سے حبذا کہنا۔ حَبَّذا: یہ کلمہ حب اور ذا سے مرکب ہے۔ مدح کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اپنی حالت نہیں بدلتا۔ حَبَّ: فعل ماضی ذا اسم اشارہ اس کا فاعل اور جملہ خبر مقدم ہے۔ اسم یا ضمیر جو اس کے بعد ہو مبتدا مؤخر ہوتی ہے۔

حبر: ا۔ حَبَرَ ـ حَبْرًا الشیءَ: کو زینت دینا، آراستہ کرنا، منقش کرنا۔ حَبَّرَ الکلامَ او الخطَّ او الشعرَ: کلام، خط یا شعر کو عمدہ بنانا۔ تَحَبَّرَ: مزین ہونا، عمدہ ہونا۔ الحَبْر جمع اَحْبَار و حُبُور: نیک عالم، دینی پیشوا، یہودیوں کے نزدیک کاہنوں کا سردار۔ الحَبْرُ الأَعْظَم: پاپائے اعظم، زمین پر حضرت مسیح کا خلیفہ۔ الحِبر جمع حُبُور: حسن و جمال (کہا جاتا ہے۔ فلانٌ حسنُ الحِبر والسِبر: فلاں شخص خوبصورت اور خوش ہیئت و خوش شکل ہے۔ فلانٌ لیس له حِبرٌ: فلاں شخص کا کوئی مثل و نظیر نہیں۔ ذَهَبَ حِبرُہ وسِبرُہ: اس کا حسن اور خوش روئی جاتی رہی) نقش و نگار۔ ــ جمع احبار و حُبُور: بمعنی الحَبْر۔ الحَبِر جمع حَبِیر و حُبُر: منقش چادر۔ ــ من الثیاب: نیا و نرم کپڑا۔ حبیر کی جمع حُبُر ہے۔ الحَبَرَة و الحِبَرَة جمع حَبَرَات و حِبرات و حِبَر: ایک قسم کی یمنی چادر، سیاہ رنگ کی چادر جو پردہ دار خواتین گھر سے باہر جاتے ہوئے اوڑھتی ہیں۔ الحُبُورَة: امامت۔

۲۔ حَبَرَ ـ حَبْرَةً واَحْبَرَہ: کو خوش و مسرور کرنا۔ حَبِرَ ـ حُبُورًا و حَبَرًا: خوش ہونا۔ الحَبْر و الحِبْر جمع اَحْبَار و حُبُور: خوشی، نعمت۔ الحَبْرَة: خوشی، نعمت، عمدہ راگ۔

۳۔ حَبِرَ ـ حَبِرَاتِ الاسنانُ: دانتوں کا پیلا ہونا۔ الحَبْر جمع حُبُور: دانتوں کی زردی۔ الحُبْرَة (بتثلیث الحاء): دانتوں کی زردی۔

۴۔ حَبِرَ ـ حَبَرًا الجرحُ: زخم کا اچھا ہونا اور کچھ اثر باقی رہنا۔ حُبِرَ: پسوؤں کے کاٹنے کے نشانوں والا ہونا۔ أَحْبَرَتِ الضربةُ جلدَہ و بجلدِہ: چوٹ کا کی جلد پر نشان چھوڑنا۔ الحَبَر (مص): نشان۔ اثر۔ الحَبَار جمع حَبَارات والحِبرُ جمع حُبُور: اثر۔ کہا جاتا ہے بجلدِہ حَبَارُ الضرب و فی یدہ حَبَارُ العمل: اس کی جلد پر چوٹ کا اور اس کے ہاتھ میں کام کا اثر و نشان ہے۔

۵۔ حَبِرَ ـ حَبَرًا واَحْبَرَتِ الارضُ: زمین کا خوب پیداوار اگانا، خوب سرسبز ہونا۔ تَحَبَّرَ السحابُ: ابر کا ظاہر ہونا اور پھیل جانا۔

۶۔ حَبَّرَ الدواةَ: دوا میں روشنائی ڈالنا۔ الحِبرُ جمع حُبُور: روشنائی۔ قلمُ الحِبرِ: فاؤنٹین پین۔ المِحْبَرَة والمَحْبَرَة والمَحْبُرَة جمع مَحَابِر: دوات۔

۷۔ الحُبْرَة: درخت کی گانٹھ۔ الحَبَّار: ایک قسم کا جانور جس میں سے سیاہ رنگ کا سائل نکلتا ہے جو رنگنے کے کام آتا ہے۔ الحُبَارَی جمع حُبَارَیَات (ح): سرخاب۔ أَبْلَهُ من الحُبَارَی: سرخاب سے زیادہ کند ذہن۔ یہ ضرب المثل اس لئے بولی جاتی ہے کہ جب سرخاب اپنا گھونسلا بدلتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے اور دوسرے پرندوں کے انڈے سیتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ الحُبْرُور والحِبْرِیر جمع حَبَارِیر (ح): سرخاب کا چوزہ۔

○ حَبَرَ ــ حُبْرًاہ: کو خوش کرنا، کو مسرور، شاد، محظوظ کرنا، کو باغ باغ کرنا۔ حَبِرَ ــ حُبُورًا: خوش ہونا، مسرور ہونا۔ حَبَّرَہ: کو سجانا، زینت دینا، تزئین کرنا، کو شاندار بنانا، خالص اور صاف بنانا، کو ماہرانہ بنانا۔ ــــہ: کو خوبصورت انداز میں ترتیب دینا، سنوارنا، لکھنا، کہنا۔ حِبر: روشنائی۔ امُّ الحِبر: دشاخہ مچھلی، چارہ کا کیڑا۔ حِبرٌ علی ورق: (معاہدہ اقرار نامہ) صرف کاغذ پر سیاہی، بے نتیجہ۔ حَبْر و حِبر جمع احبار: غیر مسلم مذہبی شخص جس کی رائے سند سمجھی جاتی ہے۔ عالم فاضل شخص، یہودی قانون دان، حِبر۔ اسقف۔ رِبّی۔ الحبرُ الأَعْظَم: پاپائے اعظم، سِفْرُ الأحبار: عہد نامہ قدیم میں تیسری کتاب جو کہانت کے متعلق ہے۔ حَبْرِی: پاپائے اعظم کے

شایان شان۔ قُدّاس حبری: پاپائے اعظم کی دعا جو عشائے ربانی میں پڑھی جاتی ہے۔ حَبْرِیة اسقف کا منصب یا اس کی عظمت۔ پادری کا عہدہ یا حلقہ اقتدار، پاپائے اعظم کا عہدہ، اسقف اعظم کا عہد حکومت۔
حَبَرَة و حِبَرَة جمع حبرات ریشمی چادر (جو عورتیں باہر جانے کیلئے پہنتی ہیں)۔ حَبَار و حِبار جمع حبارات نشان، چوٹ کا نشان، گوٹ، بیل، حاشیہ۔ حُبُور: خوشی، شادمانی۔ حُبَاریَ جمع حُباریات شتر مرغ کی قسم کا ایک پرندہ، تغدار، کلڈوگ۔ یَحْبُور: شترمرغ کی قسم کے پرندے کا چوزہ۔ مِحْبَرَة و مَحْبَرَة جمع مَحابر دوات۔

حبس: ۱۔ حَبَسَ ـِ حَبْسًا و مَحْبَسًاه عن الشي: کو سے منع کرنا۔ تَحَبَّسَ و اِحْتَبَسَ فی الکلام: گفتگو میں رک جانا۔ الحَبْس جمع اَحْباس پانی کو بہنے سے روکنے کی چیز۔ الحُبْسة گفتگو میں رکاوٹ ودشواری۔ الحُبَّس: واحد حابِس و الحُبُس واحد حَبُوس او حَبِیس پیادے۔
۲۔ حَبَسَ ـِ حَبْسًا و مَحْبَسًاه: کو قید کرنا۔ حابَسَ مُحَابَسَةً ہ: کو روکے رکھنا، حراست میں رکھنا، اِحْتَبَسَ ہ: کو روک رکھنا، کا رکنا، لازم ومتعدی۔ ـــ الرجلَ: کو روکنا، قید کرنا، الحَبْس جمع حُبُوس و المَحْبِس جمع مَحَابِس قید خانہ، جیل۔ الحَبِیس جمع حُبُس قیدی۔ المَحْبَسة جمع مَحَابِس قید خانہ، جیل۔
۳۔ حَبَسَ ـِ حَبْسًا و مَحْبَسًا المالَ علی کذا: کے لئے مال وقف کر دینا۔ اَحْبَسَ و حَبَّسَ المالَ: مال کو اللہ کے راستہ میں وقف کر دینا۔ تَحَبَّسَ و اِحْتَبَسَ علی کذا: اپنے آپ کو تک محدود رکھنا۔ الحُبُس واحد حابِس و الحُبْس واحد حَبُوس او حَبِیس ہر وقف شدہ شے۔ خواہ جانور ہو یا زمین ہو یا مکان ہو۔ الحَابِسَة حابس کا مونث: شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھر پر باندھ کر رکھے جانے والے اونٹ۔ الحَبِیس جمع حُبُسًا اللہ کی محبت کی خواہش سے دنیا سے کنارہ کش ہو کر گوشہ عزلت اختیار کرنے والا۔ جمع حُبُس من الخیل اللہ تعالیٰ کے راستہ میں وقف شدہ گھوڑا جس پر جہاد میں سواری کی جاتی ہے۔ الحَبَائِس مفرد حَبِیسَة کار خیر میں وقف کی ہوئی چیزیں۔ المَحْبَسة جمع مَحَابِس قید خانہ، عابدوں زاہدوں کا گوشہ عزلت۔
۴۔ حَبَسَ ـِ حَبْسًا و مَحْبَسًا الشيَ: کی پوری طرح حفاظت کرنا۔
۵۔ حَبَسَ ـِ حَبْسًا و مَحْبَسًا الشي بالشي: کو سے چھپانا یا سے گھیرنا۔ الحِبْس جمع اَحْبَاس بچھونے کے اوپر کا پردہ۔

○ حَبَسَ ـِ حَبْسًاه/ ہ کو روکنا، روک رکھنا، پابند کرنا۔ قید کرنا ـــ ہ من کو سے روکنا، منع کرنا، روکے رکھنا۔ (آنسو اور ہنسی وغیرہ کو روکنا یا روکے رکھنا بھی)۔ ـــ عن ہ کسی سے کوئی چیز روکے رکھنا۔ ـــ ہ: کو حراست میں رکھنا، نظر بند کرنا، قید کرنا، کو گرفتار کرنا، جیل میں ڈالنا۔ ـــ ہ علی کو کیلئے رکھنا، روکے رکھنا ایک طرف رکھنا، علیحدہ رکھنا۔ ـــ سرمایہ روک لینا، کو ناقابل انتقال طور پر لگانا۔ حَبَسَ نفسَهُ علی اپنے آپ کو کے لئے مکمل طور پر وقف کر لینا حبس یدَہ عن کے اقتدار کے ماتحت کسی چیز کو نکال لینا۔ حَبَسَ علیه انفاسه کے دم سادھ لینے کا باعث ہونا، کا دم نکالنا، حُبِسَ مع الشغل سے قید با مشقت دی گئی۔ حَبَّسَ ہ علی مالی وسائل کسی نیک مقصد کے لئے ناقابل انتقال طور پر روک لینا۔ کے استفادہ کے لئے مذہبی وصیت کرنا۔ اِنحبس رکنا، تھمنا، ذرا سی دیر کو رکنا، منقطع ہونا، قطع کلامی کیا جانا۔ اِحْتَبَسَ ہ/ ہ کو: روکنا، پابند کرنا، حراست میں رکھنا، بٹھائے رکھنا، کو نظر بند کرنا، قید کرنا، کو روکے رکھنا، رہنے دینا، رکھنا، کچل دینا، دبا دینا، ختم کرنا، ضبط کرنا، روکنا، پوشیدہ رکھنا۔ نظر بند ہونا، قید ہونا، روکا جانا، رکنا، آواز کا لڑکھڑانا، رکنا، سانس رکنا، حَبْس روکنا، رکاوٹ، روک تھام، انسداد، خلوت گزینی، کنارہ کشی، قید و بند، گوشہ نشینی، اسیری، روک، آڑ، اٹکاؤ، پشتہ، بند، حفاظت، تحویل، حراست، روکے رکھنا، گرفتاری، جیل جمع حُبُوس جیل، قید خانہ۔ حبسٌ احتیاطیٌّ نظر بندی قید، حراست (تحقیقات کے دوران) حبس انفرادی قید تنہائی، حبس شدید، قید با مشقت حِبْس جمع اَحباس بند، پشتہ۔ حُبُس و حُبْس جمع اَحْبَاس ناقابل انتقال جائیداد جس کی آمدنی نیک مقاصد کے لئے وقف ہو۔ مذہبی وصیت کے ذریعے پہنچنے والا مال۔ کان حَبْسًا علی بمعنی کان وقفا علی کامل طور پر کسی کا متوسل، دست نگر۔ حُبْسَة ہکلاپن، نقص، بولنے میں زبان کی رکاوٹ حَبِیس رکا ہوا، پابند، حوالات میں بند۔ گوشہ نشین، عزلت گزین، اکھڑی ہوئی (سانس) گلے میں پھنسنے والی (آواز) جمع حُبَسَاء تارک الدنیا، زاہد، گوشہ نشین۔ مَحْبَس و مَحْبِس جمع مَحَابِس جگہ جہاں کوئی چیز روکی گئی ہو۔ جیل قید خانہ، قید کی کوٹھڑی۔ ـ مِحْبَس روکنے کا آلہ۔ مَحْبَسَة حجرہ، کٹیا، خانقاہ، گوشہ تنہائی، احتباس البول پیشاب کی بندش۔ مَحبُوس بیرونی دنیا سے کٹا ہوا۔ تنہا کیا ہوا۔ کنارہ کش، گوشہ نشین، قید کیا ہوا، حوالات میں رکھا ہوا، قیدی، اسیر، لگایا ہوا روپیہ جو استعمال کے لئے آسانی سے دستیاب نہ ہو۔ جائیداد وغیرہ جس کے استعمال اور فروخت کو روکنے کے لئے کچھ شرائط ہوں جمع مَحَابِیس قیدی، قیدی کا ساتھی، سزا بھگتنے والا مجرم۔ المُحَبَّس علیه قابل انتقال جائیداد کا وظیفہ خوار۔ مُنْحَبِس الگ تھلگ، گوشہ نشین، عزلت گزین۔ (معاشرہ وغیرہ سے) کٹا ہوا۔

حبش: ۱۔ حَبَشَ ـُ حَبْشًا و حُبَاشَةً و حَبَّشَ و اِحْتَبَشَ الشيَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تَحَبَّشَ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ الحُبَاشة جمع حُبَاشات والاُحْبُوش و الاُحْبُوشة جمع اَحَابِیش لوگوں کی جماعت جو کسی ایک قبیلہ سے نہ ہوں۔
۲۔ اَحْبَشَت المرأةُ: عورت کا حبشی بچہ جننا الحَبَش والحَبَشة واحد حَبَشِیّ جمع حُبْشان ملک حبش کا باشندہ الحَبَشة ملک حبش۔ الاُحْبُش جمع اَحَابِش: حبشی۔ الحُبْشِیَّة نہایت سیاہ (اونٹ) (ح) بڑے جثہ کی سیاہ چیونٹیوں کی ایک قسم۔ الحُبَاشِیَّة (ح) عقاب۔

○ الحَبَش ابی سینیا، ایتھوپیا جمع اَحْبَاش ابی سینیا، ایتھوپیا کے باشندے۔ الحَبَشة بلاد والحبشة ابی سینیا، ایتھوپیا (ملک کا نام) حَبَشی جمع اَحْبَاش ابی سینیا، ایتھوپیا کا باشندہ۔

حبض: ۱۔ حَبَضَ ـِ حَبْضًا و حَبَضَ ـَ حَبَضًا السهمُ: تیر انداز کے سامنے ہی گر جانا اور سیدھا نہ جانا۔ ـــ فلانٌ بالوتر: بجانا، آواز نکالنے کے لئے تار ہلانا۔ ـــ حُبُوضًا السهمُ: کا تیر انداز کے سامنے ہی گر جانا اور سیدھا نہ جانا۔
۲۔ حَبَضَ ـِ حَبْضًا و حَبَضَ ـَ حَبَضًا الرجلُ: مرنا۔ القلبُ: کا سخت دھڑکنے کے بعد ساکن ہو جانا الحَبَض (مص) رگ کی تیز دھڑکن۔ کہا جاتا ہے۔ ما به حَبَضٌ و لا نَبَضٌ اس میں حس و حرکت نہیں۔
۳۔ حَبَضَ ـُ حُبُوضًا ماءُ البئرِ: کنویں کا پانی گھٹ جانا۔ اَحْبَضَ البئرَ: کنویں کا پانی ختم کرنا۔
۴۔ حَبَضَ ـُ حُبُوضًا حقُّه: حق تلف ہونا۔
۵۔ حَبَضَ ـُ حُبُوضًا العلاجُ: کے کا لوگوں کے نیک گمان کے خلاف نکلنا۔
رجلٌ حَابِضٌ و حَبَّاضٌ کنجوس و بخیل آدمی

المِحْبَض جمع مَحَابِض و مَحَابِيض دھنے کی کمان۔ شہد نکالنے کی لکڑی۔

حبط ۱۔ حَبِطَ ـــ حَبْطًا و حُبُوطًا عملُهٗ اس کا عمل بیکار جانا، خراب ہونا، برباد ہونا۔ ـــ دمُ القتیلِ مقتول کا خون رائیگاں جانا۔ ـــ ماءُ البئرِ کنویں کا پانی ہمیشہ کیلئے کم ہو جانا۔ اَحْبَطَ عملَهٗ کا کام بیکار و باطل کرنا۔ ـــ ماءُ البئرِ کنویں کا پانی ہمیشہ کیلئے کم ہو جانا۔

۲۔ حَبِطَ ـــ حَبَطًا البعيرُ خدقوق نامی نبات کھانے سے اونٹ کا پیٹ پھول جانا صفت حَبِطٌ جمع حَبَاطَى اس بیماری کا نام حُبَاط ہے۔ الحَبَنْطَى غصے میں بھرا ہوا، موٹا اور پستہ قد۔

۳۔ اَحْبَطَ عنه سے روگردانی کرنا، اعراض کرنا، کہا جاتا ہے۔ تَعَلَّقَ به ثم احبط عنه پہلے اس کا تعلق اس سے ہوا پھر اس نے اس سے روگردانی کی۔

۴۔ اَحْبَطَ الضربُ زيدًا چوٹ کا زید پر نشان چھوڑنا۔ الحَبَط (مص) جسم پر زخم اور کوڑوں کا نشان، مار کے سبب سوجن۔

○ حَبَطَ ـِ حُبُوطًا کوئی نتیجہ نہ نکلنا، کچھ نہ بننا، ناکام رہنا، کا ٹھیک نتیجہ نہ نکلنا، خراب ہو جانا، کے اخلاق بگڑ جانا، رائیگاں جانا، لاحاصل ہونا، بے کار ہونا، بے اثر ہونا، بے نتیجہ ہونا، فضول ہونا۔ اَحْبَطَ ہ کو ناکام بنانا، بے اثر کرنا۔ ـــ ہ علی ہ کسی کو ناکام بنانا، محروم کرنا، مایوس کرنا، شکست دینا (یعنی مذاکرات، کوششوں وغیرہ میں) حَبَط زخم کا داغ حُبُوط ناکامی، فضول ہونا، بے اثر ہونا، کمی، نقصان، فقدان، اِحباط شکست، محرومی، مایوسی ناکام بنا دینا۔

حبق: حَبَقَ ـِ حَبْقًا و حَبِقًا و حُبَاقًا پاد مارنا، زد و کوب کرنا۔

۲۔ حَبَقَ ـِ حَبْقًا و حَبِقًا و حُبَاقًا العنزُ بکری کا گوز کرنا، اس کا زیادہ تر استعمال اونٹوں اور بکریوں کے لئے ہے۔

۳۔ حَبِقُوا و تَحَابَقُوا عليه بے وقوفی کا برتاؤ کرنا، کے ساتھ جہالت سے کام لینا۔ الحُبُق والحَبَقَة کم عقل، کہا جاتا ہے: رجل حَبَقَة جاہل آدمی الحَبَقِي بے خیر آدمی۔

۴۔ حَبَّقَ المتاعَ سامان جمع کرنا۔ مضبوط کرنا۔

۵۔ اَحْبَقَ بدکار ہونا، مطیع ہونا۔

۶۔ الحَبَق (ن) پودینہ۔ حَبَقُ الماء (ن) [illegible]۔ نعناع۔ ـــ البقرِ (ن) بابونہ۔ ـــ الفتى او الفيل (ن) مرزنجوش۔

حبک: حَبَكَ ـــ حَبْكًا ہ کو مضبوطی سے باندھنا۔ الحائكُ الثوبَ جولاہے کا کپڑے کو کاریگری سے اور عمدہ بننا۔ حَبَّكَ ہ کو مضبوط کرنا۔ اَحْبَكَ ہ کو مضبوط کرنا، اچھے طریقے سے کرنا۔ تَحَبَّكَ کپڑے میں لپٹنا، کمر بند باندھنا۔ اِحْتَبَكَ الثوبُ کپڑا عمدہ بننا۔ ـــ بالازار ازار باندھنا۔ الحَبِيك مونث حَبِيكَة بنا ہوا۔ الحُبْكَة کمر بند، پٹکا۔ المَحْبَك ازار باندھنے کی جگہ۔ الحُبْكَة جمع حُبَك کمر بند، پٹکا، باڑہ۔ ریت وغیرہ میں راستہ۔ المَحْبُوك مضبوط جسم اور بناوٹ والا۔ الحَبِيكَة جمع حَبَائِك و حَبِيك و حُبُك بالوں کی ایک لٹ، ریت کے ٹیلہ کا راستہ۔ (فلک) ستاروں کے درمیان کا راستہ کہا جاتا ہے۔ السماءُ ذاتُ الحُبُك عمدہ راستوں والا آسمان یا عمدہ بناوٹ والا آسمان۔ راسُه حُبُك اس کے سر کے بال لہرئے ہیں۔

۲۔ حَبْكَرَ الشيءَ جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تَحَبْكَرَ فی طریقه راستہ میں حیران ہونا۔

○ حَبَكَ ـُ حَبْكًا ہ کو عمدہ اور مضبوط بننا، کو گوندھنا میں پلیٹ ڈالنا، کو کسنا، کو بل دینا، ملا کر بٹنا، میں بل ڈالنا، لپیٹنا، بننا، (منصوبہ) باندھنا، کی تدبیر کرنا۔ حَبَّكَ ہ کو کسنا، بل دینا، ملا کر بٹنا، بننا، جوڑنا۔ حَبْكَة پارچہ، کپڑا، کپڑے کی ساخت، بافت، ریشہ، بناوٹ، ساخت، ڈھانچہ، ترکیب۔ حُبُك: حُبُك النجوم اجرام سماویہ کے مدار حِیَاكَة بننا، جولاہے کا پیشہ۔ مَحْبُوك کس کر بنا ہوا، کسا ہوا، تنا ہوا، مضبوط، گھنا ہوا، موٹا تازہ، تنومند، چھلکے دار، مُحْتَبِك ملا کر بنا ہوا، گوندھا ہوا، باہم وابستہ، بیچ میں سے کاٹتے ہوئے گزرنے والا۔

حبل: حَبَلَ ـُ حَبْلًا الصيدَ شکار کو پھندے سے پکڑنا صفت: حابل۔ اِحْتَبَلَ الصيدَ شکار کو پھندے سے پکڑنا، کہا جاتا ہے۔ احتبله الموتُ بحبائله موت نے اس کو اپنے پھندے میں لے لیا۔ وتَحَبَّلَ الصيدُ شکار کا پھندے میں پھنسنا۔ الحابل (پھندے کے ذریعے شکار پکڑنے والا) شکاری۔ کہا جاتا ہے: ثار حابلهم على نابلهم انہوں نے اپنے درمیان فساد کی آگ بھڑکائی۔ یہ لوگوں کو پہنچنے والی سختی کے بارے میں ضرب المثل ہے۔ حابل پھندا لگانے والے کو کہتے ہیں اور نابل کمان سے تیر پھینکنے والے کو کہتے ہیں۔ نیز کہا جاتا ہے اختلط الحابل بالنابل مقابل مثل معاملہ پیچیدہ ہونے کے وقت بولی جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک حابل سے تانا اور نابل سے بانا مراد ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ دار حابله على نابله اس کا اول آخر پر گھوم گیا۔ حَوَّلَ حابله على نابله اس نے اوپر کو نیچے کر دیا۔ المَحْبَل جمع حَبَائِل پھندہ۔ الاُحْبُول و الاُحْبُولَة جمع اَحَابِيل پھندہ۔

۲۔ حَبَلَ ـُ حَبْلًا ہ کو رسی سے باندھنا۔ اِحْتَبَلَ و تَحَبَّلَ و تَحَبَّلَت الدابة جانور کا اپنی ٹانگوں کو رسی میں پھنسا لینا۔ الحَبْل جمع حِبَال و اَحْبُل و حُبُول و اَحْبَال باندھنے کی چیز، رسی (کہا جاتا ہے: صرم حِبَالَه اس نے تعلقات توڑ لئے) ملاپ (کہا جاتا ہے) وصل زيدٌ حبلَ عمرو زید نے اپنی بیٹی کی عمرو سے شادی کر دی) ریت کا لمبا قطعہ۔ الحابول کھجور کے درخت پر چڑھنے کی چھال کی رسی۔ الحَبَّال رسی بنانے یا بیچنے والا۔ المَحْبَل رسی، بنا ہوا، گوندھا ہوا شعر مُحَبَّل گوندھے یا بٹے ہوئے بال۔ مُحْتَبَلُ الفرس گھوڑی کی ٹانگ اور کھر کا جوڑ۔

۳۔ حَبِلَ ـَ حَبَلًا تِ المرأةُ عورت کا حاملہ ہونا صفت: حابل جمع حَبَلَة و حُبْل جمع حَبَالَى و حُبْلَيَات و حَبَالَانة ـــ من الماء پانی سے بھر جانا۔ صفت: حُبْلان۔ حَبَّلَ و أَحْبَلَ ها عورت کو حاملہ کرنا۔ الحَبَل ماں کے پیٹ میں موجود بچہ، رحم کا بھرنا، بھرنا۔ الحُبَال غرور، کہا جاتا ہے: به حُبَال من الشراب وہ شراب سے بھرا ہے۔ المَحْبَل مدت حمل الحَبْلان مونث حُبْلَانة بھرا ہوا۔ غصہ اور کینہ سے بھرا۔

۴۔ اَحْبَلَ النخلُ کھجور کے درخت کو گابھا دینا۔

۵۔ الحَبْل عہد و ذمہ (کہا جاتا ہے: هو يحطب في حَبْلِ فلان وہ اس کی مدد و اعانت کرتا ہے) رگ، بلند ٹیلے حبل الذراع و حبل الوريد کہا جاتا ہے۔ هو على حبل ذراعك وہ تم سے قریب ہے۔ الحَبَل غضب، غم۔ واحد حَبَلَة اُحْبَال (ن) انگور کی بیل یا اس کی شاخیں۔ الحِبْل جمع حُبُول بڑا ہوشیار عالم۔ بڑا چالاک و مکار۔ الحابل جادوگر، الحَبَلْبَلة کسی چیز کا مناسب وقت، بوجھ۔

○ اِحْتَبَلَ ہ کو دام میں گرفتار کرنا، جال میں پھانسنا، کو جال، دام، پھندے میں پکڑنا حَبْل جمع حِبَال و اَحْبُل و حُبُول و اَحْبَال رسی، مضبوط رسہ، موٹا رسہ، جہاز کا رسہ، دھاگا، ڈوری، طناب جمع حِبَال (سورج، روشنی کی) شعاع، کرن، پانی کی تیز دھار، رگ، پٹھا، نس، عضلہ، حبل الوريد شہ رگ گردن۔

الحبل السُرّی: بچہ کی نال۔ الحبل الشَوکِی: ریڑھ کی ہڈی، حِبال صوتیہ: آواز کی نالیاں۔ حبلُ المساکین: عشق پیچاں (بیل) حبال الماء: پانی کی تیز دھاریں۔ القی (اطلق) الحبل علی الغارب: معاملات کو ہونے دینا، باگیں ڈھیلی کرنا، کھلی چھٹی دینا، کوئی پابندی عائد نہ کرنا۔ ارتخاء الحبل: باگیں ڈھیلی ہونا، تسلیم کرنا، قبول کرنا، نرم ہونا، ترس کھانا۔ اِضطَرَبَ حبلُہ: بے قابو ہونا، بے ترتیبی، ابتری، بد انتظامی، یا انتشار کی حالت میں مبتلا ہو جانا۔ لَعِبَ عَلَی الحَبْلَیْنِ: دورخی چال چلنا۔ اُحبُولۃ جمع اَحابیل: جال، پھندا، دام، کمند کا رسہ۔ جمع احابیل: چالیں، داؤ پیچ، گھاتیں، دھوکے، فریب، کرتب، حیلے، چالبازیاں۔ حِبالۃ جمع حَبائل: جال، پھندا، دام، حابل اختلط الحابلُ بالنابل: ہر چیز خلط ملط ہو گئی، درہم برہم ہو گئی، گڈ مڈ ہو گئی، سخت ابتری کی حالت میں مبتلا ہو جانا۔ حابلہم و نابلہم: سب مل کر، سب معجون مرکب میں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ حَبَل: حمل۔

حبن: ا۔ حَبِنَ۔ حَبَنًا و حُبِنَ حَبْنًا: بڑے اور سوجے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صفت حابن و مَحْبون و أَحْبَن۔ ۔ علیہ: کے خلاف غصہ میں بھر جانا۔ أَحْبَنَہ الداءُ: بیماری کا کسی کو سوجے ہوئے پیٹ والا کر دینا۔ الحِبن جمع حُبُون: پیپ سے بھرا ہوا پھوڑا۔ اُمُّ حُبَین و الحُبَینَۃ (ح): گرگٹ کے مشابہ ایک جانور، عام لوگ اسے ابو بُرَیص کہتے ہیں۔

۲۔ الحَبْن و الحَبین (ن): کنیر کا درخت۔ الحِبن جمع حُبُون (ح): بندر۔

○ حَبَن: جلندر، حد سے زیادہ نفخ، پھولا ہوا ہونا، بلودھر، استسقاء۔

○ حَبْهان (حبُّ الهان): الائچی۔

حبا: ا۔ حَبا۔ حُبُوًّا: نزدیک ہونا، کہا جاتا ہے، حبوتُ الی الخمسین: میں پچاس سال کے قریب ہو گیا۔ ۔ت الشراسیفُ: پسلیوں کے پیٹ کی جانب کناروں کا لمبا اور قریب قریب ہونا۔ الحباو الحَبِیّ: گہرا بادل جو زمین کے قریب ہو۔ الحابی (فا): گردن تک اٹھے ہوئے کندھوں والا۔ کہا جاتا ہے: انہ لحابی الشراسیف: وہ اٹھے ہوئے پہلوؤں والا ہے۔ الشرسوف: پیٹ کے قریب پسلی کا کنارہ ہے۔

۲۔ حَبا۔ حُبُوًّا ما حولہ: اردگرد کی حفاظت کرنا اور اس سے دور رکھنا۔ ۔ ہ عن کذا: کو سے منع کرنا۔ حَبّی ہ: کی حفاظت کرنا، سے منع ہونا۔

۳۔ حبا۔ حُبُوًّا۔ت السفینۃُ: کشتی کا چلنا۔ ۔ الولدُ: بچے کا سرین اور ہاتھوں کے بل گھسٹنا۔ ۔ السهمُ: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ أَحْبَی الرامی: تیر انداز کا تیر کا نشانہ خطا کرنا۔ کہا جاتا ہے: رَمَی فَأَحْبَی: اس نے تیر چلایا مگر وہ نشانہ پر نہ لگا۔

۴۔ حَبا۔ ہ کذا و بکذا: کو کچھ بغیر بدلہ کے دینا۔ الحُبْوَۃ و الحَبْوَۃ و الحِبْوَۃ: عطیہ، بخشش، الحِباء: عطیہ، بخشش، عورت کا مہر۔

۵۔ حَبا۔ حَبوًا الشیئُ لہ: کو پیش آنا۔

۶۔ حَابَی مُحاباۃً و حِباءً الرجلَ: کی مدد کرنا، طرف داری کرنا، کی طرف مائل ہونا۔ ۔ القاضی زیدًا فی الحکم: قاضی کا انصاف سے روگردانی کر کے حکم میں زید کی طرف مائل ہونا۔ ۔ ہ فی البیع: بیع میں کسی سے رواداری برتنا۔

۷۔ اِحْتَبَی اِحْتِباءً: ٹانگوں اور پیٹھ کو پگڑی وغیرہ سے اکٹھا کرنا۔ ۔ بالثوب: کپڑے میں لپٹنا۔ الحُبْوَۃ والحِبْوَۃ جمع حُبًی و حِبًی: کپڑا یا پگڑی جو لپیٹی جائے۔ کہا جاتا ہے۔ حلّ حبوتہ: وہ اٹھا اور عقد حبوتہ: اور بیٹھ گیا۔

○ حَبا۔ حَبْوًا: پیٹ کے بل چلنا۔ رینگنا، دبے پاؤں چلنا، گھسٹنا۔ ۔ ہ ہ: کو کوئی چیز دینا۔ کو کوئی چیز انعام دینا، حابَی ہ: کی مدد کرنا، سے بامروت ہونا، سے خیر خواہی ظاہر کرنا، سے ہمدردی کرنا، کی طرف داری کرنا، کا احترام کرنا۔ اِحتَبَی: اپنی ٹانگیں اونچی کر کے اور کسی کپڑے کو لپیٹ کر بیٹھنا۔ حَبوَۃ و حِبوَۃ و حُبوَۃ: تحفہ، عطیہ، حِباء: تحفہ، عطیہ مُحاباۃ: حسن اخلاق، بامروتی، خوش اخلاقی، فروتنی، تہذیب، انسانیت، اخلاق، خلق، تواضع، التفات، ملنساری، کرم، مہربانی، طرف داری، جانبداری، رعایت، پاسداری۔

حتّ: ا۔ حَتَّ۔ حَتًّا الشیئَ عن الثوب: کپڑے پر سے کیچڑ وغیرہ مل کر چھڑانا۔ ۔ الشجرَ: درخت کے پتے جھاڑنا، چھال اتارنا۔ ۔ الورقَ أو القشرَ عن الشجر: درخت سے پتے جھڑنا، چھال گرنا۔ تحاتّ تحاتًّا و انحتّ انحتاتًا الورقُ من الشجر: درخت سے پتے جھڑنا۔ ۔ شعرہُ عن راسِہ: کے سر کے بال گرنا۔ ۔ت الاسنانُ: دانتوں کا کھوکھلا ہو کر گر جانا۔ الحَتّ جمع اَحتات: تیز رفتار کہا جاتا ہے۔ فرسٌ حَتٌّ: تیز رفتار گھوڑا۔ ترکوهم حَتًّا بَتًّا او حَتًّا فَتًّا: انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ما فی یدی منہ حَتٌّ و لا حَتاتۃ: میرے ہاتھوں میں اس کی کوئی چیز نہیں۔ الحَتَت (ز): درختوں کی بیماری جس میں اس کے پتے گر جاتے ہیں۔ الحُتات: بکھری ہوئی چیز۔ الحَتُوت و المِحتات من النخل: وہ کھجور کا درخت جس کا کچا پھل گر جائے۔

۲۔ حَتَّ۔ حَتًّا ہ عن الشیئ: کو سے ہٹا دینا۔

۳۔ الحَتّ جمع اَحتات: مردہ ٹڈی۔

۴۔ حَتْحَتَ: جلدی کرنا۔ تحتحت الورقُ: پتوں کا گرنا۔ جھڑنا۔

۵۔ حَتّٰی: حرف جار کے طور پر مندرجہ ذیل معانی میں آتا ہے:۔

۱) حرف انتہاء: جیسے اکلتُ السمکۃ حتی راسِها: میں نے مچھلی کو اس کے سر تک کھایا (یعنی سر نہیں کھایا)

۲) مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتا ہے اور ان مصدریہ محذوف کے معنی میں غایت ظاہر کرتا ہے۔ جیسے: سرت حتی ادخلَ المدینۃ: میں چلتا رہا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا۔ میں شہر میں داخل ہونے تک چلتا رہا۔

۳۔ علت یا وجہ بتانے کے لئے: جیسے تَرَهَّبْتُ حتی اتوبَ: میں نے توبہ کرنے کے لئے رہبانیت اختیار کی۔

۴) حرف عطف بمعنی واو۔ جیسے: اکلت السمکۃ حتی راسَها: میں نے مچھلی اور اس کے سر کو کھا لیا۔

۵) حرف ابتداء، جیسے فواعجبًا حتی کُلیبٌ تَسُبُّنی: بڑا تعجب ہے کہ کلیب بھی مجھے گالیاں دینے لگے۔ کلیب یہاں مبتداء ہے۔ حَتّامَ: کب تک۔ اصل میں حتی ما ہے۔ ما استفهامیہ کا الف حذف کر دیا گیا ہے اور یہ حتّی کا مجرور ہے۔ اس کا معنی الی متی ہے۔

○ حَتَّ۔ حَتًّا ہ: کو رگڑ کر دور کرنا، کھرچ کر اتارنا، یا صاف کرنا، چھیل کر اتارنا۔ حِتّۃ جمع حِتَت: ٹکڑا، لقمہ، نوالہ۔ حَتّی: تک، جب تک نہ، تاکہ، اس طرح کہ، یوں کہ، بھی، آخر کار یا انجام کار بھی۔ حتی لو: خواہ ہی کیوں نہ ہو، بھی نہیں، سمی، حُتات: ردی ٹکڑے، لقمے، نوالے۔ تحاتّ: کھایا جانا، گھل جانا، گھس جانا، تحلیل۔

حتأ: ا۔ حَتَأَ۔ حَتْأً و أَحْتَأَ العُقدۃَ: گرہ باندھنا۔ ۔ الجِدارَ: دیوار مضبوط کرنا، جمانا۔

۲۔ حَتَأَ۔ حَتْأً و أَحتأَ الحِملَ عن الدابۃ: بوجھ کو جانور سے اتار لینا۔

۳۔ حَتَأَ۔ حَتْأً و أَحْتَأَ الشیئَ: کو لگا تار دیکھنا۔

حتد: ا۔ حَتَدَ۔ حُتُودًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔

۲۔ حَتِدَ۔ حَتَدًا: خالص الاصل ہونا صفت حَتِد۔

خَتَدَ الشيَّ: کو خالص اور نفیس ہونے کی وجہ سے چن لینا۔ المُحْتِد و المَحْتَد من الشي: چیز کا اصل اور جوہر۔ المَحْتِد من العیون: وہ چشمہ جس کا پانی ختم نہ ہو۔ المَحْتِد: اصل، کہا جاتا ہے۔ فلانٌ کریمُ المَحْتد: فلاں شخص شریف الاصل ہے۔

○ حَتِدَ ۔ حَتَدًا: خالص نسل یا اصل والا ہونا۔

مَحْتِد: اصل، پشت، پیڑھی، نسل، نسب، سلسلہ نسب، شجرۂ نسب۔

حتر: ۱۔ حَتَرَ ۔ حَتْرًا و حُتُورًا: کی خوراک گھٹا دینا۔ بخشش میں کمی کر دینا۔ ۔ لہ شیئًا: کو تھوڑی چیز دینا۔ ۔ اھلہُ: اہل و عیال کے نان نفقہ میں تنگی کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ماحترتُ الیومَ شیئًا: آج مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ حَتَّرَ: نان نفقہ میں کمی کرنا۔ أَحْتَرَ الرجلُ: آدمی کا تھوڑی بھلائی اور بخشش والا ہونا۔ ۔ علینا الرزقَ: ہمارا رزق کم کرنا یا روک لینا۔ الحَتْر (تثلیث الحاء) تھوڑی چیز یا بخشش۔ الحُتْرَة: بچہ کا ایک بار دودھ چوسنا الحتیرۃ: (بعض کے نزدیک الحَتِیرَۃ) عمارت بنانے والوں کے لئے تیار کیا جانے والا کھانا۔

۲۔ حَتَرَ ۔ حَتْرًا و حُتُورًا ہ: کو تیز نگاہ سے دیکھنا۔

۳۔ حَتَرَ ۔ حَتْرًا و حُتُورًا ہ: کو باندھنا، مضبوط کرنا، حَتَرَ البیتَ: گھر کے گرد گھیرا بنانا۔ اَحْتَرَ الشيَّ: کو مضبوط کرنا، حِتَارٌ جمع حُتُرٌ الشي: کنارہ، گھیرا۔ حِتارُ الأذن: کان کا کنارہ۔ حِتارُ الظفر: ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔ حِتارُ المنخل و الغربال: چھلنی کا گھیرا۔

۴۔ حَتْرَشَ حَتْرَشَةً الجرادُ: ٹڈی کا کھانے میں آواز نکالنا۔ تَحَتْرَشَ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ الحُتْرُوش: چست لڑکا۔ الحَتَارِش: بچے کی حرکتیں، کہا جاتا ہے: ما احسن حَتَارِشَ ھذا الصبیِّ: اس بچے کی حرکتیں کتنی بھلی اور پیاری ہیں!

۵۔ تَحَتْرَفَ الشيُّ: بکھر جانا، کہا جاتا ہے۔ تَحَتْرَفَ الشيُّ من یدی: چیز میرے ہاتھ سے بکھر گئی۔ الحَتْرَفَۃ: آنکھ کی سرخی، خشونت۔

○ حُتْرَة: چھوٹا ٹکڑا، معمولی سی چیز یا بات حِتار جمع حُتُر: کنارا، حاشیہ، گرد و پیش، گرد و نواح، قرب و جوار، ماحول۔

حتف: الحَتْف جمع حُتُوف: موت، کہا جاتا ہے۔ مات حَتْفَ انفِہ او حتفَ فیہ وہ قتل یا چوٹ سے نہیں بلکہ اپنے بستر پر اپنی طبعی موت مرا۔

○ یَبْحَثُ عن (یسعی الی) حَتْفِہ بِظِلْفِہ وہ اپنی تباہی کا خود ہی باعث ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ہی قبر کھود رہا ہے۔ مات حتفَ انفِہ: وہ طبعی موت مرا۔

حتك: حَتَكَ ۔ حَتْكًا و حَتَكَانًا و تَحَتَّكَ: چھوٹے اور تیز قدموں سے چلنا۔ الحَتَكُ و الحَوَاتِك (ح): شتر مرغ کے بچے۔

حتل: حَتَلَ ۔ حُتْلاہ: کو دینا۔ الحِتْل و الحاتِل: مثل، مشابہ۔

حتم: ۱۔ حَتَمَ ۔ حَتْمًا الشيَّ: کو مضبوط کرنا۔

۲۔ حَتَمَ ۔ حَتْمًا الشيَّ علیہ: کو پر واجب کرنا۔ ۔ بالشي: کسی چیز کا حکم لگانا، فیصلہ کرنا۔ تَحَتَّمَ الشيَّ علی نفسہ: کو اپنے پر لازم یا واجب کر لینا۔ ۔ وانْحَتَم الامرُ: کسی معاملہ کا ایسا لازم ہونا کہ اس کا خلاف ناممکن ہو۔ الحَتْم جمع حُتُوم: فیصلہ۔ الحاتِم (فا) حاکم (کہا جاتا ہے: حتم الحاتمُ بکذا: حاکم نے اس چیز کا فیصلہ دیا) کوا۔

۳۔ تَحَتَّمَ: دستر خوان کا بچا ہوا کھانا کھانا۔ الحُتَامَة: دستر خوان کا بچا ہوا کھانا۔

۴۔ تَحَتَّمَ: ہشاش بشاش ہونا۔ اپنی خوشی کا اظہار کرنا۔

۵۔ تَحَتَّمَ الزجاجُ بعضُہ علی بعض: شیشے کا ایک دوسرے پر گر کر چکنا چور ہو جانا۔

۶۔ الحَتْم (مص) جمع حُتُوم: خالص (کہا جاتا ہے: ھو الاخ الحَتْمُ: وہ سگا اور حقیقی بھائی ہے۔ ھذا ولدٌ حَتْمٌ: یہ حقیقی لڑکا ہے، جس کے نسب میں کوئی شک نہیں) سیاہ۔ الحاتِم سیاہ۔ الحُتْمَة سیاہی الأَحْتَم سیاہ۔

○ حَتَمَ ۔ حَتْمًا ہ علی کا کیلئے حکم جاری کرنا، کو کیلئے ضروری بنانا، کو کیلئے مقرر کرنا، کو کیلئے فرض، واجب یا ضرورت بنانا، کو پر عائد کرنا، کی کسی کو ہدایت کرنا۔ ۔ ب کا فیصلہ کرنا، کا یقین کرنا۔ حَتَّمَ ہ علی: کا کیلئے حکم جاری کرنا، کو کیلئے ضروری بنانا، کو کیلئے مقرر کرنا، کو کیلئے فرض، واجب یا ضرورت بنانا تَحَتَّمَ: ضروری ہونا، ۔ علی: کا فرض ہونا، پر واجب ہونا، لازمی ہونا۔ حَتْم جمع حُتُوم جاید کرنا، حکم، ہدایت، تاکید، آخری فیصلہ، قرارداد، تعیین، حَتْمًا قطعًا، یقینًا، واضح طور پر، بالضرور، لازمی طور پر، لازمًا، چار و ناچار، ناگزیر طور پر۔ حَتْمِیٌّ: ناگزیر، اٹل، عین فطرت کے مطابق۔ واضح قطعی، غیر مبہم، فیصلہ کن، ناقابل تنسیخ، دوٹوک، ناقابل تبدیلی، آخری، طے شدہ۔ حَتْمِیَّة: قطعیت، وضوح، ناطقیت، فیصلہ کنی، فیصلہ، تصفیہ، تاریخ، وقت یا حدود کا تعین، ارادہ، قصد، عزم، ثابت قدمی، ناقابل تبدیلیت، ضرورت، لاحتمیۃ بے نظریہ کہ افعال انسانی کلی طور پر متعین نہیں ہوتے، عدم تعین کا عقیدہ (فلسفہ میں)۔ محتوم: عاید، موکد نصیحت کردہ، حکم دیا ہوا، ہدایت کیا ہوا، ضروری، واجب، لازم، لازمی، ناگزیر، اخلاقًا و قانونًا لازم، محدود، مقرر، طے شدہ، مستقل، معین، پکا، پختہ، ناطق، قطعی، فیصلہ کن، قاطع، مقرر شدہ، مصمم، ناقابل تغیر، اٹل، عین فطرت کے مطابق، مبرم، مقدر، ٹھہرایا ہوا، مامور، پہلے سے لکھا ہوا، پہلے سے فیصلہ کیا ہوا۔ مُحَتَّم: عاید شدہ، تاکید کیا ہوا، موکد، ضروری، واجب، لازم، لازمی، ناگزیر، مقرر، طے شدہ، معین، مقرر شدہ، فیصلہ کن، قاطع، ناقابل تغیر، اٹل، پہلے سے لکھا ہوا، پہلے سے فیصلہ کیا ہوا۔ مُتَحَتِّم: انتہائی ضروری۔ واجب (فرض)۔

حتن: ۱۔ حَتِنَ ۔ حَتَنًا الحرُّ: گرمی کا شدید ہونا۔

۲۔ أَحْتَنَ الرجلُ: کے سارے تیروں کا ایک ہی جگہ پڑنا۔ تَحَاتَنَ القومُ فی الأمر: کسی امر میں لوگوں کا یکساں و مساوی ہونا، کہا جاتا ہے: تَحَاتَنَ الدمُ: آنسوؤں کے دو دو قطرے گرے۔ تحاتنت الریاحُ: مختلف الجہات ہوائیں پے در پے چلیں اِحْتَتَنَ: بالکل برابر ہونا۔ الحَتْن و الحِتْن: مساوی، ایک جیسا، ساتھی، کہا جاتا ہے: ھما حتنان: وہ دونوں برابر ہیں۔ الحاتِن من الأیّام: وہ دن جس کا اول و آخر گرمی میں برابر ہو۔

حتا: حَتَا یَحْتُو حَتْوًا: بہت تیز دوڑنا۔

حتی: حَتَی ۔ حَتْیًا و أَحْتَی الحبلَ: رسی بٹنا۔ ۔ ہ: کو سینا، مضبوط کرنا۔ فرسٌ مُحْتَاۃُ الخَلْق: مضبوط ہاتھ پاؤں کا گھوڑا۔

حث: ۱۔ حَثَّ ۔ حَثًّا و حَثَّثَ تَحْثِیثًا و احتثَّ اِحْتِثَاثًا و اِسْتَحَثَّ اِسْتِحْثَاثًا الرجلَ علی الأمرِ: کو کسی کام پر اکسانا، کو کوئی کام کرنے پر سرگرم کرنا۔ حَاثَّ ہ: کو برانگیختہ کرنا، اکسانا، ابھارنا۔ تَحَاثَّ القومُ: ایک دوسرے کو اکسانا۔ اِحْتَثَّ اِحْتِثَاثًا: برانگیختہ ہونا، برانگیختہ کیا جانا (لازم و متعدی) الحَثِیث والحَثُوث: تیز۔ کہا جاتا ہے۔ وَلّٰی حَثِیثًا: وہ تیزی سے واپس پھرا۔ الحُثَاث و الحِثاث: تیزی، تھوڑی نیند، جھپکی کہا جاتا ہے۔ ما اکتحل فلانٌ حُثَاثًا: اس نے ذرا سی نیند بھی نہیں لی۔

۲۔ الحُثّ: بھوسے کے ریزے۔ خشک روئی، چمکتی ہوئی ریت۔

۳۔ حَثْحَثَ البرقُ: بجلی کا بادل میں کوندنا۔ ۔ المیلَ فی العین: سرمہ کی سلائی کا آنکھ میں ہلانا۔ ۔ فلانًا: کو کسی

چیز پر اکسانا، برانگیختہ کرنا تَحَثْحَثَ القومُ: تیار ہونا، آمادہ ہونا الحثحاث و الحُثْحُوث: بہت جلدی کرنے والا۔

○ حَثَّ ـُ حَثًّا ہ علی: کو کچھ کرنے پر اکسانا، ترغیب دینا، مجبور کرنا، سے کا تقاضا کرنا، کو پر آمادہ کرنا، جانور کو تیز چلانا، کو ایڑ لگانا، مہمیز کرنا، تیز دوڑانا، کو کالالچ دینا، کو کی تحریص کرنا، کو پر ابھارنا، کو پر بھڑکانا، اشتعال دینا، طیش دلانا، برانگیختہ کرنا حَثَّ خُطَاہ إلی: کی طرف قدم تیز کرنا، جلدی کرنا حَثَّ الطریقَ: جلدی کرنا، دوڑنا، جلدی جلدی قدم اٹھانا حَثَّ قَدَمَیہ: تیز قدم ہونا، دوڑنے لگنا احْتَثَّ و اِسْتَحَثَّ: بمعنی حَثَّ حَثِیث: تیز، تیز رو، تیز رفتار، تند، چست، جلد باز، پھرتیلا حَاثَّة: ایک مادہ جو غدودوں سے نکل کر خون میں شامل ہوتا ہے اور تحریک اعضاء کا باعث بنتا ہے۔ ہارمون (Harmone)

حثر: احَثِرَ ـَ حَثَرًا الجلدُ: جلد کا پھنسی دار ہونا۔ العسلُ: شہد کا خراب ہونے کے سبب دانے دار ہونا۔ صفت حَاثِر و حَثِر۔ حَثَّرَ الدواءَ: دوا کی گولیاں بنانا اَحْثَرَ و تَحَثَّرَ النخلُ: کھجور کے درخت کا پھل لانا الحَثَر: انگور کا دانہ جو ابھی ظاہر ہی ہوا ہو۔ الحَثِر: پھنسی والا، کہا جاتا ہے طعامٌ حَثِر: بکھرا ہوا کھانا جس میں کوئی خیر نہ ہو فؤادٌ حَثِر: وہ دل جو یاد نہ رکھ سکے۔

۲۔ حَثِرَ ـَ حَثَرًا الشیئُ: کشادہ ہونا، صفت حَثِر و حَثُر ـ ت العینُ: آشوب چشم سے آنکھ کا متورم ہونا الحَثَر (مص): تلچھٹ۔

۳ حَثُرَبَ الماءُ: پانی کا گدلا ہونا۔ ـ تِ البئرُ: کنویں کا گدلے پانی والا ہونا الحُثْرُب: گدلا پانی۔ (ن) میدانی سبزی۔

حثل: احَثِلَ ـَ حَثَلًا: بڑے پیٹ والا ہونا۔

۲۔ أَحْثَلَ تِ الأُمُّ وَلَدَھا: ماں کا بچے کو خراب غذا دینا۔ صفت مفعول حَثِیل: ـ الدھرُ فلانًا: زمانہ کا کسی کو بدحال کر دینا الحَثَل: دودھ پلانے کی خرابی، بدحالی المحثُل: لاغر، کمزور۔

۳۔ الحُثَال و الحُثَالَة: چاول یا جو وغیرہ کا چھلکا (جو گر گیا ہو) حُثَالَةُ الدھن: تیل کا تلچھٹ ـ الناسِ: گھٹیا رذیل لوگ الحِثْلَة: حوض میں تھوڑا بچا ہوا پانی۔

○ حُثَالَة: بے کار شے، تلچھٹ، ذرا سا بچا ہوا حصہ فضلہ، گاد، (مجازا)، چوکر، بھوسی، میل کچیل، پھوک، ریزے، چھانٹا ہوا پتہ، ردی، بیکار چیزیں، ٹوٹی پھوٹی چیزیں حثالةُ الحریر: ریشم کے ٹکڑے۔

حثم: حَثَمَ ـُ حَثْمًا الشیَٔ: کو ملنا، رگڑنا ـ لہ: کو دینا المحْثُمة: بند کے نزدیک پانی گرنے کی جگہ الحَثْمَة و الحَثَمَة جمع حِثام: چھوٹا ٹیلہ، ناک کا بانسہ۔

حثا: احَثَا ـُ حَثْوًا و حَثَی ـِ حَثْیًا و تَحْثَاءً لہُ: کو تھوڑی سی چیز دیدینا۔

۲ حَثَا ـُ حَثْوًا و حَثَی ـِ حَثْیًا و تَحْثَاءً الترابَ: مٹی گرانا۔ الترابُ: مٹی کا گرنا، مجازاً کہا جاتا ہے حَثَا فی وجھہ الرمادَ: اس نے اس کو شرمندہ و نادم کر دیا حَثَا فی وجھہ الترابَ: وہ اس سے سبقت لے گیا اِسْتَحْثَوا: ایک دوسرے کے چہرے پر مٹی پھینکنا الحثاء و الحَثَی: ڈالی ہوئی مٹی، بھوسے کے ریزے الحَثَی (مص) جمع حَثَیَات: مٹی وغیرہ کا لیپ الحَثْوَاء: بہت مٹی والی زمین۔

حثی: دیکھو حثا۔

حَثَا ـُ حَثْوًا: کو بکھیرنا، چھڑکنا، پھیلا دینا، منتشر کرنا، پراگندہ کرنا۔

حج: احَجَّ ـُ حَجًّاہ: کا قصد کرنا، کہا جاتا ہے حَجَّ بنو فلان فلانًا: بنو فلاں نے فلاں کے پاس بہت آمد و رفت رکھی حججتُ فلانًا: میں فلاں کے پاس بار بار آیا گیا۔ الاماکنَ المقدسَّةَ: مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا صفت حَاجّ جمع حُجَّاج وحَجِیج و حُجّ مونث حَاجَّة جمع حَوَاجّ۔ ـ علیہ: کے پاس آنا حَجَّجَ تَحْجِیجًا و أَحَجَّ اِحْجَاجًاہ: کو ادائیگی حج کے لئے بھیجنا اِحْتَجَّ البیتَ: بیت اللہ کی زیارت کرنا المحاج (ف): مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے والا۔ اسم جمع ہے بمعنی الحُجَّاج: کہتے ہیں قدم الحاجُّ حتی المشاۃ: حاجی لوگ آپہنچے حتی کہ پیدل چلنے والے بھی الحِجَّة: سال ذوالحِجَّة: جمع ذوات الحِجَّة: قمری سال کا آخری مہینہ جو ذی القعدہ اور محرم کے مابین واقع ہے المَحَجّ: حج کرنے کی جگہ المَحَجَّة جمع مَحَاجّ: راستہ کا بیچ (درمیانی حصہ) المَحْجُوج: مطلوب، مقصود، حج کرنے کی جگہ۔

۲۔ حَجَّ ـُ حَجًّا عن الامر: کسی کام سے باز رہنا، رکنا،

۳۔ حَجَّ ـُ حَجًّاہ: پر دلیل میں غالب آنا حَاجَّ حِجَاجًا و مُحَاجَّةً ہ: سے جھگڑا کرنا اور اس پر غالب آنا تَحَاجًّا تَحَاجًّا: آپس میں جھگڑنا۔ اِحْتَجَّ: دعوی کرنا اپنے دعوی پر دلیل لانا۔ بالشیٔ: کو دلیل یا عذر بنانا اِسْتَحَجَّ: دلیل و حجت طلب کرنا، ظاہر کرنا الحُجَّة جمع حُجَج و حِجَاج: دلیل، برہان، حجت عند العامة: کسی چیز کی رسید جو فروخت کی جائے المِحِجَّة: حج کا اسم، حج کرنا۔ الحَجِیج: دلیل سے غالب آنے والا المِحْجَاج: بہت جھگڑالو المَحْجُوج: دلیل میں مغلوب ہونے والا۔

۴۔ حَجَّ ـُ حَجًّا الجرحَ: زخم میں سلائی ڈال کر ٹٹولنا۔ الحَجِیج: وہ شخص جس کا زخم سلائی ڈال کر ٹٹولا جائے۔ المِحْجَاج (طب): زخم ٹٹولنے کی سلائی۔

۵ الحَجَّة: بالی، کان کی لو الحِجَّة: کان کی لو۔ الحَجَاج جمع حُجُج و اَحِجَّة و حِجَاج: ابرو کی ہڈی حَجَاجُ الشمس: آفتاب کا کنارہ

۶ حَجْحَجَ: بولنے سے رکنا ـ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ الرجلُ: پچھلے پاؤں لوٹنا۔

○ حَجَّ ـُ حَجًّاہ: پر دلائل، شہادت سے غالب آنا، یا اس کو دلائل سے شہادت سے شکست دینا، کو قائل کرنا، منوالینا، باور کرانا، یقین دلانا (مکہ) کی زیارت کرنا، (مکہ) کا حج کرنا حَاجَّ ہ: سے جھگڑنا، بحث کرنا، سے بحث میں اپنے نقطہ نگاہ پر زور دینا، کو قائل کرنے کی کوشش کرنا تحاجّا: ایک دوسرے کے خلاف دلیل دینا، استدلال کرنا، دلیل لانا، مباحثہ کرنا، کسی مسئلہ پر بحث یا مشورہ طلب کرنے کے لئے ملنا۔ اِحْتَجَّ ب: دلیل، عذر، اپیل وغیرہ کے طور پر کچھ پیش کرنا، تائید یا بیگناہی کے ثبوت کے طور پر کہنا یا بیان دینا کہ۔ عذر پیش کرنا ـ ل: کی براءت کرنا، کو بیگناہ ثابت کرنا، کا جواز پیش کرنا، کی توجیہ کرنا۔ علی: پر اعتراض کرنا، پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، کے خلاف احتجاج کرنا حَجّ و حِجَّة جمع حَجَّات و حِجَج: حج، مکہ کا حج، زیارت ذو الحِجَّة: اسلامی سال کا آخری مہینہ حُجَّة: بحث، دلیل، بہانہ، عذر، معذرت، ثبوت، دستاویز، نوشتہ، تحریر، مستند ماخذ، مجاز، حاکم بحُجَّة ان: کے بہانے، کی درخواست پر، کے عذر پر، کی حجت پر حَجَاج جمع اَحِجَّة: مدار۔ مَحَجّ: (سفر کی) منزل مقصود مَحَجَّة جمع مَحَاجّ: حج کرنے کی جگہ یا چیز مزار۔ (سفر کی) منزل مقصود، مقصد، راستہ، طریقہ، طریق کا محجة الصواب: صراط مستقیم، سیدھا راستہ مَحَجَّةُ الحدید: ریل، ریلوے، ریل کی پٹڑی حِجَاج: بحث، جھگڑا، تَحَاجُج: بحث مباحثہ، مناظرہ، بحث و استدلال، عذر پیش کرنا، بہانہ، عذر یا حیلہ پیش کرنا اِحْتِجَاج جمع احتجاجات: بحث و استدلال، مناظرہ، عذر، بہانہ

ـعلی: کے خلاف احتجاج، گلہ، شکایت، پر اعتراض۔

حجا: حَجَا۔ حَجْا بالشي: پر خوش ہونا۔ ــ عنه الشيَ: سے چیز کو روکنا۔ حَجِيَ۔ حَجْا و حَجًا و تَحَجًّا بالشي: کا بخل کرنا، پر فریفتہ ہونا۔ الحَجي: لائق، قابل، سزاوار (آپ کہتے ہیں: هو حَجِيّ بكذا وہ فلاں چیز کے لائق ہے، اس کا اہل ہے)۔ پناہ لینے والا، آپ کہتے ہیں: هو حَجِيٌّ اليهم وہ ان کے پاس پناہ لئے ہوئے ہے۔ المَحْجَا جائے پناہ۔

حجب ۱۔ حَجَبَ۔ حَجْبًا و حِجَابًا و حَجَّبَ ہ کو چھپانا تَحَجَّبَ و اِحْتَجَبَ چھپنا۔ الحِجَاب جمع حُجُب پردہ، تعویز۔ (مو)۔ ستار کے آئینہ کو ڈھکنے والا جھومر تعویذ۔ حجاب الشمس سورج کی روشنی ــ القلب دل اور پیٹ کے درمیان حائل ہونے والا پردہ۔ الحاجب جمع حَوَاجِب و حَوَاجِيب ابرو۔ حاجبُ الشمس سورج کا کنارہ، طلوع کے وقت سورج کا نظر آنے والا کنارہ۔ حَوَاجِبُ الشمس سورج کی شعاعیں۔ حاجِبَةُ الشمس: (ا ع): آنکھوں کو سورج کی شعاعوں سے بچانے والا سامان۔

۲۔ حَجَبَ۔ حَجْبًا و حِجَابًا صدرُہ کا سینہ تنگ ہونا۔

۳۔ حَجَبَ۔ حَجْبًا و حِجَابًا ہ کو اندر آنے سے روکنا، کہا جاتا ہے: فلانٌ يحجب للأمير: فلاں شخص حاکم کا دربان ہے۔ ـبينهما دو چیزوں کے درمیان حائل ہونا۔ حَجَّبَ ہ کو اندر آنے سے روکنا۔ اِسْتَحْجَبَ ہ: کو دربان بنانا، حاجب مقرر کرنا۔ الحِجاب جمع حُجُب دو چیزوں میں حائل ہر چیز۔ الحاجِب جمع حُجَّاب و حَجَبَة دربان۔ الحِجابة دربان کا پیشہ۔ دربانی۔

۴۔ حَوَاجِبُ الشي چیز کا کنارہ۔ الحاجِبِيَّة (ن) ایک قسم کا پودا جو معتدل ممالک میں بکثرت ہوتا ہے، اس کے پھول بڑی حد تک حشرات الارض جیسے شہد کی مکھی، مکھی وغیرہ سے مشابہ ہوتے ہیں۔

○ حَجَبَ۔ حَجْبًا ہ علی کو سے چھپانا، کو سے ڈھکنا، کے آگے پردہ لگا دینا، کی آڑ میں کر دینا، کی سے حفاظت کرنا، کو سے الگ رکھنا، کو سے مخفی کرنا۔ ــ ہ کو بے رونق یا ماند کرنا، سے آب و تاب میں بڑھ جانا، ــ ہ عن: کو کیلئے ناقابل فہم بنانا، کو سے پوشیدہ رکھنا، کو سے چھپانا۔ ــ بين ــ و بين: کے درمیان جدائی ڈالنا۔ حَجَّبَ: چھپانا، نقاب اڑھانا۔ ــ ها: عورت کو پردہ کرانا۔ ــ ہ ب کو سے چھپانا، ڈھانپنا، تَحَجَّبَ عن: سے چھپنا، ــ نقاب اوڑھنا، منظر سے فرار ہو جانا۔ اِنْحَجَبَ نقاب اوڑھنا، برقع پہننا، چھپنا، ڈھکنا، چھپ جانا، مخفی ہونا، اِحتجب فجأةً غائب ہو جانا، فضا میں تحلیل ہو جانا، نظر نہ آنا، نظر سے غائب ہو جانا، نقاب اوڑھنا، پردہ کرنا، چھپنا۔ ــ عن: سے پوشیدہ ہو جانا، چھپ جانا۔ ــ پیچھے ہٹنا، دیکھے جانے سے بچنا۔ (اخبار، رسالہ وغیرہ) بند ہو جانا، منقطع ہو جانا۔ حجب الگ تھلگ ہونا یا کرنا، چھپانا، حفاظت کرنا، پناہ دینا، دور رکھنا۔ حِجَاب جمع حُجُب و اَحْجِبَة نقاب، چادر، شال، لمبا پردہ پردہ، عورت کا نقاب، برقع، آڑ، اوٹ، پردہ، پارٹیشن (کمروں کے درمیان پتلی دیوار)، فولڈنگ سکرین، ناکہ، روک، ڈایافرام Diaphragm، تعویذ، حاجب جمع حُجَّاب و حجبة دربان، حاجب، اردلی، چپڑاسی، حاجب الهواء سربند، بند منہ کا، ہوابند حاجب: چھپانے والا، حفاظت کرنے والا، آڑ میں کرنے والا۔

حجر ۱۔ حَجَرَ۔ ہ حَجْرًا و حَجْرَانًا (بتثلیث الحاء فی المصدرين): کو روکنا ــ عليه القاضيُ: قاضی کا کسی کو اپنے مالی تصرفات سے روک دینا۔ حَجْرًا و مَحْجَرًا عليه الامرَ: پر کوئی امر حرام کرنا، ناجائز ٹھہرانا۔ تَحَجَّرَ على فلان: کو محروم کرنا، کو تنگ کرنا، کہا جاتا ہے۔ تَحَجَّرَ ما وسّعه اللّهُ: جس چیز میں اللہ تعالی نے اس کو فراخی دی تھی اس کو اپنی جان کیلئے تنگ کر لیا۔ اِحْتَجَرَ الشيَ: کو اپنی گود میں رکھنا، لینا، ــ به کی پناہ لینا۔ الحُجْر ممانعت، دفع رکاوٹ، کہا جاتا ہے۔ حُجْرًا له وہ دفع ہو۔ حُجْرتا العسكر (ا ع): لشکر کے بازو، میمنہ، میسرہ۔ الحَجْر (مص) مطلق رکاوٹ۔ ــ و الحُجْر و الحِجْر حرام (کہا جاتا ہے: هذا حِجْرٌ عليك یہ تم پر حرام ہے)۔ گود کہا جاتا ہے: نشأ فلان في حجر فلان: فلاں فلاں کی گود یا حفاظت میں پلا بڑھا۔ الحِجر جمع حُجُور حُجُورَة و اَحْجَار: عقل، گھوڑی، اَحْجَارُ الخيل: وہ عمدہ گھوڑے جو نسل بڑھانے کے لئے رکھے جائیں۔ (مفرد غیر مستعمل ہے) الحَاجِر (فا): صحراء میں حاجیوں کے اترنے کی جگہ ــ والحاجُور: پانی کو روکنے والا دریا کا پشتہ۔ المَحْجَر: حفاظت کی جگہ۔ اسی سے ہے۔ المحجر الصحيّ: وہ جگہ جہاں وبائی امراض میں مبتلا لوگ حفاظت و نگرانی میں رکھے جاتے ہیں تا کہ دوسرے تندرست لوگ وبا کا شکار نہ ہوں۔ گاؤں کا ارد گرد جیسے باغ جہاں چرنا منع ہو۔ المَحْجَر و المِحْجَر جمع مَحَاجِر باغیچہ۔

۲۔ حَجَّرَ الطينُ: مٹی کا سخت اور پتھر کے مانند ہونا۔ تَحَجَّرَ و اِسْتَحْجَرَ پتھر جیسا ہونا۔ الحَجَر جمع اَحْجَار و حِجَار و حِجارَة و أَحْجُرُ: پتھر، کہا جاتا ہے: أَلْقَمَهُ الحَجَر: اس نے اسے مسکت اور دندان شکن جواب سے خاموش کر دیا۔ کہا جاتا ہے۔ اهل الحَجَر و المَدَر دیہاتی لوگ الحَجَران چاندی اور سونا الحَجِر و الحَجِير بہت پتھروں والی جگہ۔

۳۔ حَجَّرَ القمرُ چاند کا ہالہ والا ہونا۔ أَحْجَرَہ: کو ڈھانپنا، چھپانا، اِحْتَجَر حجرہ بنانا۔ تَحَجَّرَ و اِسْتَحْجَرَ الرجلُ: حجرہ بنانا۔ الحَجْر من العين: آنکھ کا خانہ الحُجْر ناخن کے گرد کا گوشت۔ المَحْجَر و المِحْجَر جمع مَحَاجِر من العين: آنکھ کا خانہ۔ الحُجْر جمع حُجَر و حُجُرَات و حَجَرَات و حُجْرَات: کمرہ۔

۴۔ اِسْتَحْجَرَ عليه کی جرأت کرنا۔

۵۔ الحاجز جمع حُجْران بلند زمین جس کا درمیانی حصہ نشیبی ہو۔ الحُجْرَة جمع حُجَر و حُجُرات و حُجَرَات و حُجْرَات: کنارہ، الحَجْرُ جمع حَجْر و حَجَرات و حَوَاجِر: کنارہ، کہا جاتا ہے۔ اِنْتَشَرَتْ حَجْرَتُه اس کا مال بہت ہو گیا۔

○ حَجَرَ۔ حَجْرًا و حِجْرًا و حُجْرًا و حِجْرانًا و حُجْرانًا على: کو تک رسائی نہ کرنے دینا۔ ہ / على: کو روکنا، باز رکھنا، کی راہ میں حائل ہونا، ــ ہ على: کی پر ممانعت کرنا، سے کو محروم کرنا۔ ــ على ہ کو کچھ کرنے سے روکنا منع کرنا۔ ــ على کو زیر سرپرستی رکھنا، کو قانونی طور پر نا اہل قرار دینا، حَجْر: پابندی، روک تھام، باز رکھنا، روک، رکاوٹ، تعرض، سدراہ ہونا، حائل ہونا، بندش، (ــ على: کو مختصر کرنا، کم کرنا) روکنا، بند کرنا، محروم کرنا، اخراج، ممانعت، گوشہ نشینی، حدود کے اندر رکھنا۔ روک رکھنا، احتیاطی بندش، امتناع، تنسیخ، استرداد، ــ على: کسی شخص کی قانونی اہلیت کی تنسیخ یا حد بندی (بندش) حجر صحي: قرنطینہ (امراض وبائی کے لئے جبری قیام) طبی قید، حِجْر: روکا ہوا، منع کیا ہوا، باز رکھا ہوا، ممنوع قرار دیا ہوا، گود، آغوش، دامن (جمع اَحْجار و حُجُور و حُجُورَة): گھوڑی، حُجْرَة جمع حُجَرات: کمرہ، سیل (Cell) (ریل گاڑی کا) کمپارٹمنٹ، کوٹھڑی، چوبارہ، خوابگاہ، حجرہ، ایوان۔ حُجْرَة الانتظار: انتظارگاہ، حجرةُ النوم بیڈروم، خوابگاہ۔ الحجرة الفلاحية: ایوان زراعت۔ مَحْجَر جمع مَحَاجِر:

فوجی، ہسپتال، بیماروں کے رہنے کی عمارت۔جیل، قید خانہ کال کوٹھری محجرٌ صحیٌّ: قرنطینہ، قرنطینہ کا مرکز۔مَحْجِر و مِحْجَر و مَحْجَر جمع مَحَاجِر و محجر العین: حلقہ چشم۔تحجیر: ممانعت، پابندی، امتناع مَحْجُور جمع مَحَاجِیر (اور مَحْجُور علیہ): زیر سرپرستی رکھا ہوا، نابالغ، صغیر سن، وارڈ نگرانی۔حَجَّر ہ: کو پتھر بنا دینا، پتھر میں تبدیل کر دینا، کو پتھر جیسا سخت کر دینا۔تَحَجَّرَ: پتھر میں تبدیل ہو جانا، پتھر ہو جانا۔حَجَر جمع اَحْجَار و حِجَارَۃ و حِجَار: پتھر۔وزن۔الحجر الاساسیّ: بنیادی پتھر۔بنیادی چیز۔نیو کی اینٹ، وضع الحجر الاساسی: نیو کی اینٹ رکھنا۔حجر البَلاط: پتھر کی سل، فرش کا پتھر حجر جھنم: قمری تیزاب، شورے کا تیزاب۔حجر الجیر: چونے کا پتھر۔الحجر السُّمَّاقی یا حجر السُّمَّاقی: ایک قسم کی سخت سرخ چٹان جو سرخ و سفید بلوروں پر مشتمل ہوتی ہے اور انہیں صیقل کر کے زیورات بنائے جا سکتے ہیں۔الحجر الأسود: (کعبہ کا) سیاہ پتھر۔حجر العَثْرَۃ: رکاوٹ، سنگ راہ، حجر القمر: کہربائی، حجر کریم اور حجر ثمین: قیمتی پتھر، گوہر طبع علی الحجر: پتھر کا چھاپا، پتھر پر لکھ کر چھاپنا۔طباعۃ الحجر: پتھر کی چھپائی یا طباعت۔حَجَرِی: پتھر کا، پتھر کے متعلق۔العصر الحجری: پتھر کا زمانہ۔العصر الحجری الحدیث: پتھر کے زمانہ کا آخری دور۔العصر الحجری القدیم: پتھر کے زمانہ کا قدیم دور۔حَجِر: پتھریلا، پتھر بنا ہوا۔حَجَّار: پتھروں سے عمارت بنانے والا، معمار، پتھر کاٹنے والا۔مَحْجَر جمع مَحَاجِر: پتھر کی کان۔تحجیر: پتھر کر دینا، کان سے پتھر نکالنا۔تَحَجُّر: پتھر ہو جانا مُتَحَجِّر: پتھر بنا ہوا، مُسْتَحْجِر: پتھر بنا ہوا۔

حجز: ا۔حَجَزَ ـِ حَجْزًا و حِجَازَۃً بینھما: کے درمیان میں آنا، فاصلہ کرنا۔ ہ: کو منع کرنا، روکنا، دور کرنا۔علیہ المالَ و العقارَ: کے مال یا جائیداد کو دعوی کی بنا پر روک لینا۔حَاجَزَہ: ایک دوسرے کو منع کرنا۔اَحْجَزَ و انْحَجَزَ: ملک حجاز میں آنا۔ تَحَاجَزُوا: ایک دوسرے کو منع کرنا، روکنا، دفع کرنا۔ اِنْحَجَزَ: رکنا۔اس کی مثال یہ ہے: حجزہ فانحجز: اس نے اس کو روکا تو وہ رک گیا۔احتجز بہ: سے محفوظ ہونا، باز رہنا۔ الرجلُ: ملک حجاز میں آنا۔ الحجز: پاک دامن، پاک۔ والحُجْز: قبیلہ۔ الحَاجِز جمع حَجَزَۃ: روکنے اور حائل ہونے والا۔

تلوار کی دھار، برزخ، رکاوٹ۔النَّارِی (اع): بموں کی باڑھ، گولیوں کی باڑھ۔الحراری: ہوائی جہاز کی ہوائی طبقوں سے رگڑ سے پیدا ہونے والی گرمی یا حرارت۔الحجاز: جزیرہ عرب میں معروف ملک جو تہامہ اور نجد کے درمیان حائل ہے۔

(مو): گانے کا ایک سُر۔

۲۔ اِحْتَجَزَ الشَّیْءُ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔

۳۔ اِحْتَجَزَ الشَّیْءَ: کو گود میں اٹھانا اور گھیرنا۔ب الإزار: ازار کمر پر باندھنا۔الحُجْزَۃ جمع حُجَز و حُجُزَات و حُجَزَات و حُجْزَات: آزار باندھنے کی جگہ، نیفہ۔ فی المجاز: کسی شئے کو تھامے رہنا، تمسک، کہا جاتا ہے فلانٌ طیّب الحُجْزَۃ: فلاں پاکدامن ہے۔شدید الحجزۃ: بڑا صابر۔ھذا کلام آخذ بعضہ بحُجَزِ بعض: اس کلام کا ایک حصہ دوسرے حصہ سے مربوط و منسلک ہے۔الحِجاز: کمر بند۔اونٹ کو باندھنے کی رسی۔المُحْتَجَز: آزار باندھنے کی جگہ۔

۴۔الحِجز و الحُجز: اصل، کنارہ۔الحاجز جمع حَجَزَۃ ظالم۔

○ حَجَزَ ـُ حَجْزًا ہ عن: کو سے روکے رکھنا، کو سے منع کرنا، روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو سے روک رکھنا، باز رکھنا۔ بین: دو چیزوں کو الگ کرنا۔ ہ / علی: کو ضبط کرنا، کو الگ کرنا، علیحدہ کرنا، کو قرق کرنا، باڑے میں بند کرنا، پر قبضہ کرنا، کو زبردستی لے لینا۔ ہ: کو بحق سرکار ضبط کرنا، کی حفاظت کرنا، کو ریزرو کرنا، (جیسے نشست ریزرو کرنا)۔ بلاک کرنا، بند کرنا، روکنا، منفصل کرنا، الگ کرنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا، الگ تھلگ کرنا، گرفتار کرنا، نظر بند کرنا، قید کرنا، حد کے اندر رکھنا، الگ رکھنا، تنہائی میں رکھنا، ناقابل گزر بنانا، ناقابل رسائی بنانا، پہنچ سے باہر رکھنا، ناقابل حصول بنانا۔حَجْز: قابو میں رکھنا، روکنا، پابندی، قید، قید و بند، الگ تھلگ کرنا، حدود کے اندر رکھنا، تنہائی، علیحدگی، جدائی، گرفتاری، نظر بندی، گرفت، ضبطی، قرقی (سیٹوں کی) ریزرویشن۔ علی: کی ضبطی، قرقی حجز الحریّۃ: آزادی کی موقوفی، غیر قانونی گرفتاری، قید، حراست یا روک، ناجائز تشدد، سختی، جبر، حبس، جبر اکراہ۔القی الحجز علی: کو بحق سرکار ضبط کر لینا۔الحِجاز: حجاز، مغربی عرب، بحر قلزم کے ساحل پر واقعہ علاقہ۔حِجازی: حجاز کے متعلق (جمع حجازیون)، حجاز کا باشندہ۔حَاجِز و حاجزۃ جمع حواجز: رکاوٹ، روک، اڑچن، سد راہ ہونا، درمیانی

دیوار، اوٹ، آڑ، ٹٹی، پردہ، چلمن، بلاک، ناکہ بندی، روڈ بلاک، جنگلا، تار کا احاطہ، فصیل، پھاٹک، باڑ، کٹھرا، جنگلے یا کٹھرے کے چھوٹے ستونوں کا سلسلہ، کچا پشتہ، عارضی روک، کچی مورچہ بندی۔الحجاب الحاجز: ڈایافرام Diaphragm پردہ یا جھلی۔ پردہ شکم، اعضائے رئیسہ اور معدہ کے بیچ کا پردہ۔حاجز الأمواج: لہر توڑ۔بند۔پشتہ (لہروں کو روکنے اور ان کا زور توڑنے کیلئے) الحواجز القُمْرُقِیَّۃ (الجُمْرُکیۃ): کسٹمز کی رکاوٹیں۔حاجزۃ الصواعق: برق ربا (lightning rod) مُوَظَّفٌ حاجز: قرقی والا، بیلف bailiff۔

حجف: حَاجَفَ مُحَاجَفَۃً ہ: کا مقابلہ کرنا، کو ہٹانا، اِنْحَجَفَ: التجا کرنا، زاری کرنا۔اِحْتَجَفَ ہ: کو چننا، منتخب کرنا۔ الشیءَ: کو قبضہ میں لینا، حاصل کرنا۔ نفسہ عن کذا: خود کو سے ہٹانا، باز رکھنا۔الحَجَفَۃ جمع حَجَف: لکڑی کے بغیر چمڑے کی بنی ہوئی ڈھال۔ سینہ۔الحَجِیف: پیٹ کی گڑگڑاہٹ۔

○ مُحاجفۃ: یک ٹہنی باڑ۔اِحجاف بمعنی إجحاف۔

حجل: ا۔حَجَلَ ـُ حُجُولًا و حَوْجَلَ و حَجَّلَت العینُ: آنکھ کا اندر کو دھنس جانا۔

۲۔ حَجَلَ ـِ حَجْلًا و حَجَلانًا: ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پر چلنا۔

۳۔ حَجَلَ ـُ حَجْلًا و حَجَلانًا البعیرَ: اونٹ کو باندھنا۔المُقَیَّدُ: مقید کا دونوں پاؤں سے کودنا۔ حَجَّلَ المُقَیَّدُ: مقید کا دونوں پاؤں سے کودنا۔ الحَجْل و الحِجْل و الحِجِل جمع احجال و حُجُول: بیڑی۔

۴۔ حُجِلَ حَجْلًا بینھما: دونوں کے درمیان حائل ہونا۔

۵۔ حَجَّلَ الرجلُ امرَہ: اپنے کام کو مشہور کرنا۔ المُحَجَّل: مشہور، کہا جاتا ہے۔ امرٌ اغرُّ مُحَجَّل: بہت مشہور بات۔

۶۔ حَجَّلَ العروس: دلہن کے لئے کمرہ آراستہ کرنا، دلہن کو آراستہ کمرہ میں داخل کرنا۔ الحَجَلۃ جمع حجال و حَجَل: مکان کے اندر دلہن کے لئے ڈالا ہوا پردہ، دلہن کے لئے آراستہ کیا ہوا کمرہ۔ ربّاتُ الحِجال: عورتیں، عرب کہتے ہیں: الحُجُول لِرَبّات الحِجال: پازیب عورتوں کے لئے ہے۔

۷۔ حَجَّلَتِ المرأۃُ بنانَھا: عورت کا مہندی لگانا۔

۸۔ حُجِّلَت المرأۃُ: عورت کو پازیب پہنایا جانا۔ الحَجْل و الحِجْل و الحِجِل جمع احجال و

حُجُول: پازیب۔

۹۔ حُجِلَ و تَحَجَّلَ الفرسُ: گھوڑے کا سفید ٹانگوں والا ہونا۔ صفت مُحَجَّل و مَحْجُول: اگر تین ٹانگوں سے سفید ہو تو وہ حَجِیل کہلاتا ہے۔ الحَجْل و الحِجْل والحِجِل جمع اَحْجَال و حُجُول و التحجِیل: گھوڑے کے ٹانگ میں سفیدی المُحَجَّل من الخیل سفید ٹانگوں والا گھوڑا کہا جاتا ہے۔ یوم مُحَجَّل: مسرت وخوشی سے روشن دن۔

۱۰۔ الحَجَل واحد حَجَلة جمع حِجْلان و حَجْلَی (ح): چکور۔ الحَوْجَلة و الحَوْجَلَّة جمع حَوَاجِل و حَوَاجِیل: شیشی۔ الحُجَیْلاء: پانی جس پر دھوپ نہ پڑتی ہو۔

○ حَجَلَ ۔ حَجْلًا و حَجَلانًا: اچھلنا، کودنا، چھلانگ لگانا، اچھل کر کود جانا، ایک پاؤں پر کودنا، جانور کا کودنا، اچکنا، رسی سے کودنا، اچھل کود کرنا۔ حَجْل و حِجل جمع حُجُول و اَحْجَال پائل، پازیب، حَجَل اسم جنس واحد حَجَلة جمع حِجْلان و حِجْلَی: تیتر، دراج، چکور، پہاڑی تیتر یا چکور، پہاڑی بٹیر، لوا، بھڑ تیتر، حَجَلة جمع حِجال: پردہ والا چھتر یا خوابگاہ (دلہن کے لئے)۔ لعبة الحَجَلة: بچوں کا کھیل جس میں ایک پاؤں پر چل کر ٹھیکری کو آگے بڑھاتے ہیں۔

• مُحَجَّل: (عورت) جس نے پازیب پہنے ہوں سفید ٹانگوں والا (گھوڑا)، چمکدار، روشن، تاباں، تابندہ، فروزاں، بے مثال، منفرد، یکتا، غیر معمولی (خصوصاً اغر محجل کے جزو جملہ میں)۔

حجم: ۱۔ حَجَمَ ۔ حَجْمًا الحَجَّامُ المریضَ: حجام کا بیمار کے پچھنے لگانا۔ اِحْتَجَمَ: پچھنے لگوانا۔ الحَاجِم جمع حُجَّام و حَجَمَة و الحَجَّام: پچھنے لگانے والا۔ الحِجَامَة: پچھنے لگانا۔ المِحْجَم والمِحْجَمَة جمع مَحَاجِم: پچھنے لگانے کا اوزار، سینگی۔ المَحْجَم جمع مَحَاجِم: جسم میں پچھنے لگانے کی جگہ۔

۲۔ حَجَمَ ۔ حَجْمًا ہ عن الشیء: کو سے روکنا، باز رکھنا۔ ۔ البعیرَ: اونٹ کے منہ پر جالی چڑھانا جب وہ جوش میں آئے۔ طرفَهُ عنه: کی طرف سے نگاہ پھیر لینا۔ اَحْجَمَ عن الشیء: سے رکنا، ڈر کر سے پیچھے ہٹنا۔ الحِجام: اونٹ کے منہ پر لگانے کی جالی تا کہ وہ کاٹ نہ سکے۔ المِحجام: خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹنے والا۔

۳۔ حَجَمَ ۔ حَجْمًاتِ الحیَّةُ: سانپ کا ڈسنا۔

۴۔ حَجَمَ ۔ حَجْمًا الصبیُّ ثدیَ اُمِّهِ: بچہ کا اپنی ماں کی چھاتی کو چوسنا۔ احجمت المرأةُ للمولود: ماں کا بچے کو پہلی دفعہ دودھ پلانا۔

۵۔ حَجَمَ ۔ حُجُمًا و احجمَ الثدیُ: پستان کا ابھرنا، بلند ہونا۔ الحَجْم (مص) جمع حُجُوم: جسم کی مقدار۔ وہ ابھار جو ہاتھ کے پھیرنے سے معلوم ہو۔ المَحْجُوم: جسیم۔

○ اُحْجَمَ عن: سے ڈر کر پیچھے ہٹنا، دیکھنا، دبنا، سے باز رہنا، رکنا، احتراز کرنا، اجتناب کرنا، کونہ کرنا، پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، حَجْم جمع حُجُوم و اَحْجَام: زیادہ مقدار حجم، سائز، توپ کے اندرونی قطر کی نالی۔ کبیرُ الحجم: ضخیم، کافی بڑا، حَجَّام: سینگی لگانے والا، پچھنے لگانے والا۔ حِجامة: سینگی لگانا، پچھنے لگانا۔ سینگی یا پچھنے لگانے کا فن، پچھنا۔ مِحْجَم و مِحْجَمَة جمع مَحَاجِم: سینگی۔ اِحْجام: باز رہنا، احتراز کرنا، پابندی، علیحدگی، کم آمیزی، پیچھے رہنا، الگ تھلگ رہنا۔

حجن: ۱۔ حَجَنَ ۔ حَجْنًا العودَ: لکڑی کو موڑنا، ٹیڑھا کرنا۔ ۔ واِحْتَجَنَ الشیءَ: کو کانٹے سے کھینچنا۔ حَجَّنَ العودَ: لکڑی کو موڑنا، ٹیڑھا کرنا۔ تَحَجَّنَ العودُ: لکڑی کا مڑنا، ٹیڑھا ہونا۔ الحَجَن والحُجْنَة: ٹیڑھا پن، کجی۔ الاَحْجَن مونث حَجْنَاء جمع حُجْن: ٹیڑھا، کہا جاتا ہے: صقر احجنُ المُخالِب: ٹیڑھے چنگل والا شکرا۔ المِحْجَن و المِحْجَنة: ٹیڑھے سر کا ڈنڈا۔ کھونٹی پر مڑے ہوئے سر والی چیز مِحْجَنُ الطائر: چونچ (پرندہ کی)۔

۲۔ حَجِنَ ۔ حَجَنًا بالدارِ: گھر میں اقامت کرنا۔

۳۔ حَجِنَ ۔ حَجَنًا علیه وبه: سے کنجوسی کرنا، بخل کرنا۔ اِحْتَجَنَ المالَ: مال کو اکٹھا کرنا، پراگندہ مال کو اکٹھا کر کے درست کرنا۔ اِحْتَجَنَ علیه: کو روکنا۔ الحُجْنَة: جمع کی ہوئی اور مخصوص کی ہوئی چیز۔ مِحْجَنُ مالٍ: اونٹوں کا اچھا منتظم۔

۴۔ الحَجُون: ست، کاہل، کہتے ہیں، سرنا عقبةً حَجُونًا: ہم مسافت والی گھاٹی پر چلے۔

○ حَجَنَ ۔ حَجْنًا ہ: کو موڑنا، ٹیڑھا کرنا، اِحْتَجَنَ ہ: کو چھیننا، جھپٹنا، پر جھپٹا مارنا، ہاتھ مارنا، کو ہتھیانا، ہتھیانا، زبردستی چھیننا، اَحْجَن: ٹیڑھا، مڑا ہوا۔ مِحْجَن جمع مَحَاجِن: لاٹھی جس کا سرا مڑا ہوا ہو، لاٹ پادری کا عصا، کانٹا، آنکڑا، کھونٹی، درانتی، ہک۔

حجا: ۱۔ حَجَا ۔ حَجْوًا: ٹھہرنا۔

۲۔ حَجَا ۔ حَجْوًا ہ: کا قصد کرنا، پر اعتماد کرنا۔ ۔ بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ حَجِیَ ۔ حَجًی به: سے وابستہ رہنا، پر فریفتہ ہونا۔ تَحَجَّی به: پر فریفتہ ہو کر اس سے وابستہ رہنا۔ ۔ الشیء: کو ارادہ کرنا۔ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے تحجَّیتکم الی هذا المکان: میں اس جگہ تک پہنچنے میں تم سے آگے رہا اور تم سے پہلے وہاں جم گیا۔ الحَجَا جمع اَحْجَاء: پناہ گاہ۔ پناہ کی جگہ۔

۳۔ حَجَا ۔ حَجْوًا السِرَّ: بھید کی حفاظت کرنا۔ بالشیء: کی کنجوسی کرنا، بخل کرنا۔ ۔ ہ: کو روکنا، منع کرنا۔ اِحْتَجَی الشیءَ: کو چھپانا۔

۴۔ حَجَا ۔ حَجْوًا به خیرًا: کے بارے میں اچھا خیال کرنا۔ ۔ الامرَ: کا محض گمان پر دعوی کرنا اور یقین نہ رکھنا۔ حَاجَی مُحَاجَاةً ہ: کو پہیلیاں پیش کرنا۔ پر سمجھ یا عقل میں غالب آنا۔ تَحَاجَوا: آپس میں پہیلیوں کا تبادلہ کرنا ایک دوسرے سے پہیلیاں بیان کرنا۔ ۔ الحِجَی جمع اَحْجَاء: عقل، سمجھ، کہا جاتا ہے۔ حَاجَیتُهُ فَحَجَوتُهُ: میں نے اس سے عقل و سمجھ میں مقابلہ کیا اور غالب آیا۔ الاُحْجِیَّة جمع اَحَاجِی و اَحَاجٍ: پہیلی، چیستان۔ الأحَاجِیّ: معمی، پیچیدہ بات۔ کلمة مُحْجِیَة و مَحْجِیَّة: کلمہ جس کے الفاظ ظاہری معنی کے مخالف ہوں۔

۵۔ حجا ۔ القومَ: کو بدلہ دینا۔

۶۔ اَحْجَی اِحْجَاءً ہ بکذا: کو کا اہل، لائق بنانا کہا جاتا ہے۔ ما اَحْجَاهُ بکذا: وہ اس کا کس قدر لائق و سزاوار ہے۔ الحَجِی والحَجِیّ: مستحق، لائق، مَحْجَاة: لائق، سزاوار۔ کہا جاتا ہے۔ انه لمَحجاة أن یفعل کذا: وہ ایسا کرنے کا مستحق ہے۔ وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔ وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ ایسا کرے۔

۷۔ الحجا جمع اَحْجَاء: زمین کا ابھرا ہوا اٹھا ہوا حصہ۔ وادی کا موڑ۔ حجا الشیء: چیز کا کنارہ الحجا جمع اَحْجَاء: کنارہ، گوشہ۔ الحَجَاة جمع حَجًا: بارش کے قطروں سے پیدا ہونے والا بلبلہ۔

حجی: دیکھو حجا

○ حجا به خیرًا: کے متعلق اچھی رائے رکھنا۔ حَاجَی ہ: کو پہیلی پیش کرنا، سے پہیلیوں میں بات کرنا، رمز آمیز ہونا، پیچیدہ ہونا۔ حِجی و حجا جمع اَحْجَاء: سمجھ، ذہانت، عقل، فہم، فراست، دماغ، نکتہ رسی، بصیرت، ادراک، فہم، زیرکی، ذکا، دقیقہ رسی، ہوشمندی، حَجِیّ ب: کے لئے مناسب، موزوں، کے شایاں۔ اَحْجَی: زیادہ مناسب، زیادہ موزوں،

زیادہ درست، زیادہ صحیح، بہتر۔ اُحْجِيَة جمع اَحَاجِي و اَحَاج: پہیلی، چیستان، معما، عقدہ۔

حدّ: اَحَدَّ ـُ حَدًّا و حَدَدًا الدارَ: گھر کیلئے حد مقرر کرنا۔ ـ الشيَّ عن الشيِّ: چیز کو چیز سے جدا کرنا، ممیز کرنا۔ حَدَّدَ الارضَ: زمین کی حدود قائم کرنا۔ ـ الامرَ: کو معلوم کرنا۔ کی تعریف کرنا۔ حادیت ارضُه ارضي: اس کی زمین میری زمین کے متصل ہے۔

الحَدّ (مص) جمع حُدُود: دو چیزوں کے درمیان کی روک (آپ کہتے ہیں) دارهُ حدُّ داري: اس کا گھر میرے گھر کے پڑوس میں ہے) چیز کی انتہا۔ ـ حـدّ الشيء: کسی چیز کی جامع و مانع تعریف۔ الحَدِيد: پڑوسی۔ کہا جاتا ہے۔ هو حديدي: وہ میرا پڑوسی ہے۔ داري حديدةُ داره: میرا گھر اس کے پڑوس میں ہے۔ المحدود: حدود مقرر کردہ۔

۲- حَدَّ ـُ حَدًّا و حَدَدًا، اللّٰهُ عَنَّا الشرَّ: اللہ نے برائی کو روک کر ہم سے دور کر دیا۔ ـ المذنبَ: گنہگار پر حد لگانا، اس کو عبرتناک سزا دینا۔ الحَدّ جمع حُدُود: سزا۔ الحَدَد (مص): ممنوع کہا جاتا ہے۔ هذا امرٌ حَدَدٌ: یہ کام ممنوع ہے اس کو کرنا جائز نہیں۔ دونَ هذا حَدَدٌ: اس کے ورے ممانعت ہے۔ هذا خبر حَدَدٌ: یہ خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ حَدَدًا ان يكون هذا: خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ حدودُ اللّٰه: اللہ کی اطاعت اور شرعی احکام۔ المَحْدُود: خیر یا شر سے روکا ہوا۔ محروم۔ الحَدّاد: دربان، یا داروغۂ جیل۔

۳- حَدَّ ـُ حَدًّا وحَدَّدَ و اَحَدَّ السكينَ: چھری کو تیز کرنا۔ حَدَّ ـِ حِدَّةً و احْتَدَّت السِّكِّينُ: چھری کا تیز ہونا۔ اِسْتَحَدَّ: دھار تیز کرنا۔ الحَدُّ من السيف: تلوار کی دھار۔ جمع الحُدُود۔ قاطع، کہا جاتا ہے۔ اَحِدَّة: سكين حُدَاد: تیز کاٹنے والی چھری۔ الحَدِيد جمع اَحِدَّاء و حِدَاد: تیز کاٹنے والا۔ کہا جاتا ہے سيف حَدِيدٌ: تیز کاٹنے والی تلوار۔ شمشیر براں (ك): لوہا۔ سخت لوہا مذکر اور نرم مونث کہلاتا ہے۔ الحَدِيدَة جمع حَدَائد و حَدِيدَات و جمع الجمع حَدَائدات: لوہے کا ٹکڑا۔ حَدِيدَة الحرث: ہل کی پھالی، ہل کا پھل۔ الحَدَّاد: لوہار۔ لوہا بیچنے والا۔ الحِدَادَة: لوہار کا پیشہ۔

۴- حَدَّ ـِ حَدًّا و حَدَدًا و حِدَّةً عليه: پر غصہ ہونا، غضبناک ہونا۔ حَادَّ عليه: پر غصہ ہونا، غضبناک ہونا۔ حَادَّهُ: سے دشمنی رکھنا، پر غضبناک ہونا۔ تحَادَّا: ایک دوسرے سے ناراض ہونا، باہم غضبناک ہونا، قوی ہونا، شدید ہونا، سخت ہونا۔ احتَدَّ: ـ عليه: پر غصہ ہونا، غضبناک ہونا۔ الحَدُّ من الانسان: انسان پر طاری ہونے والی غضبناکی کی کیفیت۔ شجاعت قوت۔ من الشراب: شراب کا جوش۔ ـ من كل شي: تیزی۔ الحُدَاد جمع حِدَّة: تیزی والا۔ کہا جاتا ہے۔ رجل حُدَادٌ: تیزی والا آدمی۔ رجل حديد: تیز فہم یا تیز مزاج آدمی۔

۵- حَدَّ ـُ حَدًّا و حِدادًا: میت پر سوگ میں سیاہ کپڑے پہننا۔ ـت المراةُ: عورت کا اپنے شوہر کی موت پر زیب و زینت ترک کر کے سیاہ کپڑے پہننا۔ سوگ منانا۔ صفت حَادّ جمع حَوادّ: اَحَدَّت المراةُ: عورت کا خاوند کے غم میں سوگ منانا۔ صفت مُحِدّ و مُحِدَّة۔ الحِداد: سیاہ ماتمی لباس۔ ہم کہتے ہیں۔ لَبِسَ الحِداد: اس نے سیاہ ماتمی لباس پہنا۔ ترك الحِداد: اس نے سیاہ ماتمی لباس ترک کر دیا۔

۶- حَدَّدَ اليه وله: کا قصد کرنا۔ الحُداد: انتہائی حد، کوشش، کہا جاتا ہے۔ حُدَادُكَ ان تفعل كذا: تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ ایسا کرو۔

۷- حَدَّدَ الزرعُ: بارش کی تاخیر کی وجہ سے کھیتی کا دیر سے اگنا۔

۸- اَحَدَّ اليه النظرَ: کو تیز نظر سے دیکھنا۔ گھورنا۔ الحادّ: تیز ہم کہتے ہیں نظر حادّ: تیز نظر۔

۹- تَحَدَّدَ بهم: کو مشتعل کرنا، سے جھگڑا کرنا، دنگا کرنا۔

○ حَدَّ ـُ حَدًّا ہ: (چاقو) تیز کرنا، سان پر لگانا۔ ـ ہ من: کی سے حد یا سرحد مقرر کرنا، حد بندی کرنا، کا سے نقشہ کھینچنا، کی سے حدود کا تعین کرنا، کو سے جدا کرنا، یا الگ کرنا، کی سے حد باندھنا، کو کھمبوں کی باڑ لگا کر الگ کرنا۔ ـ ہ: کی حد لگانا، کی حد کا کام دینا، کو حد کے اندر رکھنا، تنگ محدود رکھنا، کو حد کے اندر رکھنا۔ ـ ہ/ من: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو قابو میں رکھنا، کو روکے رکھنا۔ حَدَّ ـِ حِدَّةً على: پر طیش میں آنا، پر غصے ہونا، ناراض ہونا۔ ـ حِدادًا على: کا ماتم کرنا، افسوس کرنا، سوگ منانا، کے ماتم میں سیاہ پوش ہونا، کے مرنے پر ماتمی لباس پہننا۔ حَدَّدَ ہ: (چاقو وغیرہ) تیز کرنا، کو سان پر لگانا۔ (گرم لوہے کو) پیٹ کر کچھ بنانا، کی حد یا سرحد مقرر کرنا، کی حد بندی کرنا، کی حدود کا تعین کرنا، کی حد لگانا، کے گرد گھیرا ڈالنا، کی تحدید کرنا، کو سختی سے جدا کرنا، الگ کرنا، کی حد باندھنا، کا خاکہ بنانا، نقشہ کھینچنا، کی حد کا کام دینا، کو گھٹا کر کم کرنا، محدود کرنا، کو حد کے اندر رکھنا، محدود رکھنا، کو حد کے اندر رکھنا۔ ـ ہ/ من: کو مقرر کرنا، معین کرنا، ٹھہرانا، کا جدول بنانا، کا گوشوارہ تیار کرنا، کا فہرست میں اندراج کرنا۔ (قیمت) مقرر کرنا (کی) تعریف کرنا، کا معین معنی بیان کرنا، واضح کرنا، معین کرنا۔ حَدَّدَ بصرة: اچانک تیز نظر ڈالنا۔ ـ في: کی جانچ پڑتال کرنا، کو تیز نظروں سے دیکھنا۔ حَادَّ ہ/ ہ: کی مخالفت کرنا، کے خلاف کرنا، کو توڑنا، کا دفعیہ کرنا، کی خلاف ورزی کرنا، کی بے ادبی کرنا، یا بے حرمتی کرنا۔ اَحَدَّ ہ: کو تیز کرنا۔ اَحَدَّ النظرَ الى: کی طرف تیز نظر سے دیکھنا، کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ اَحَدَّ بصرهُ: تیز نظر دوڑانا۔ ـ في: کی جانچ پڑتال کرنا کی طرف تیز نظر سے دیکھنا۔ احدّ من بصره: تیزی سے اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، جھجھلتی ہوئی نظر ڈالنا۔ ماتمی لباس پہننا۔ تَحَدَّدَ: حد بندی ہونا، سرحد مقرر ہونا، خاکہ بننا، نقشہ کھنچنا، حد مقرر ہونا، مقرر ہونا، تعریف کیا جانا، معین معنی بیان کیا جانا، تعریف و تشریح کے قابل ہونا، صراحت کے قابل ہونا، حد بندی کے قابل ہونا۔ اِحْتَدَّ: ناراض ہونا، یا ہو جانا، غصہ ہونا یا ہو جانا۔ ـ على: پر طیش میں آنا، غضبناک ہونا، برہم ہونا، مشتعل ہونا، بھڑکنا۔ ـ: مضطرب ہونا، ہیجان میں آنا، پریشان ہونا، بے چینی کی حالت میں ہونا۔ حَدّ جمع حُدُود: (چاقو، تلوار کی) دھار، کنارہ، حد، سرحد، کسی ملک کی سرحد۔ حد فاصل: حد، انتہا، آخری حصہ، اختتام، آخری جگہ، ریل کا آخری سٹیشن، بس وغیرہ کا آخری اڈا، ایک پیمانہ، حد، درجہ، ریاضی میں مساوات کا رکن، کسر، (اربعہ متناسبہ کی) اصطلاح، الٰہی فرمان یا قانون، قانونی (شرعی) سزا۔ لِحدِّ یا الی حدِّ: تک، کی حد تک۔ الى حدّ الآن یا لِحدّ الآن: اب تک۔ الى حدٍّ ما: کسی درجہ یا حد تک۔ الى حدٍّ بعيد، الى حدٍّ كبير: بڑی یا کافی حد تک، یا درجے تک، بہت کافی۔ الى ايّ حدٍّ: کتنی دور، کس درجہ یا حد تک۔ لاحَدَّ لَهُ: بے حد، لامحدود، لامتناہی، غیر محدود۔ بلا حدٍّ، الى غير حدّ: بے حد، غیر محدود۔ على حدٍّ سواء و على حدٍّ سوى: اسی طرح، اس قدر، یکساں، برابر برابر، اسی طور پر، علی ہذا القیاس۔ على حدّ: کے مطابق۔ في حدِّ ذاته و بحدّ ذاته: بذاتہ، بنفسہ، بجائے خود، اس لحاظ سے۔ الحد الأعلى و الحد الاقصى: زیادہ سے زیادہ۔ الحد الأدنى: کم سے کم، اقل ترین۔ حدُّ عُمْرِهِ: عمر کی حد۔ ذو حدين: دو دھاری والا۔ في حدود: کے اندر، کی حد میں، کے عرصہ میں، کے ڈھانچہ میں۔ بَلَغَ اَقْصى حُدُودِهِ: اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنا۔ حُدُودُ اللّٰه: اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی آزادی

عمل پر عائد کردہ حدیں یا پابندیاں ۔حَـدَد: ممنوع، قدغن لگایا ہوا۔حداد علی: پر ماتم کرنا، سوگوار ہونا، یا ماتم کرنے یا سوگوار ہونے کا عمل۔ثوب الحداد: ماتمی لباس، سوگ کا لباس۔حداد البلاط: درباری، یا شاہی ماتم۔حَدِید: لوہا، جمع حَدَائِد: (کسی تعمیر کے) آہنی حصے۔دھاتی مال، لوہے کی مصنوعات، دھات کی بنی ہوئی چیزیں، اوزار برتن وغیرہ۔حدید خام: خام لوہا۔ دیگی لوہا۔حدیدٌ مُطاوع: ٹوٹا ہوا لوہا۔حدیدٌ غُفْلٌ: ڈھلا ہوا لوہا۔ دیگی لوہا۔ظَهْرُ الحدید اور حدید الظَهر: دیگی لوہا، دیگ کا لوہا۔سِکّةُ الحدید: ریل روڈ۔حَدِید جمع حِداد و اَحِدَّاء و اَحِـدَّه: تیز (چاقو، آنکھ، زبان وغیرہ) چوکس، چوکنا، ہشیار، (ذہین) اَحَـدّ: زیادہ تیز، زیادہ چوکس، شدید تر، قوی تر، زیادہ پرجوش، زیادہ تشدد آمیز، حَدِیْدَة جمع حَدَائِد: لوہے کا ٹکڑا، لوہے سے بنی ہوئی کوئی چیز یا اوزار۔حدیدة الحرث: ہل کا پھل، پھالی، علی الحدیدة: مالیاتی یا مالی مشکلات میں، جسے روپے کی تنگی ہو۔حَدِیْدِی: لوہے کا، لوہے کے متعلق سِکّة حَدِیْدِیَّة: ریلوے، ریلوے روڈ۔الحُدَیْدَة: (مغربی یمن کی بحری بندرگاہ کا نام) ۔حُـدَیـدہ۔ حَدّاد: لوہار۔حِدَادَة: آہنگری۔ لوہاری، لوہار کا کام، دھات کا کام، دھاتی اشیاء بنانے کا فن۔علی التحدید او علی وجه التحدید: ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک، پکی بات تو یہ ہے۔ درحقیقت، لگی لپٹی رکھے بغیر۔حَـادّ: تیز، چوکس، چوکنا، ہشیار (ذہن) اونچا لہجہ، تیز، تند، شدید، سخت، پرزور، پرجوش، پر شوق، سرگرم جوشیلا، آتش مزاج، جلد باز، درندہ صفت، خونخوار، شگفتہ خاطر، چنچل، واضح گہرا، بہت سخت (بیماری) حاد المزاج و حاد الطبع: گرم مزاج، گرم طبیعت کا، تیز مزاج، جوشیلا، تنک مزاج، چڑچڑا، غصیلا، زود رنج، زاویة حَادّة: زاویہ حادہ (90 درجے سے کم کا زاویہ) Acute angle تحت الحاد: حادہ سے کم درجے کا۔مَحْدُود: جس کی حدود پر کوئی ملک وغیرہ واقع ہو۔ محدود، گھرا ہوا، پابند کیا ہوا، روک رکھا ہوا، قید کیا ہوا، محدود، تھوڑا (جیسے تعداد علم) حد بندی کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، مقرر شدہ، قطعی، غیر مبہم، ناطق، فیصلہ کن، محدود کرنے والی صفت محدود المعنی: غیر مبہم، واضح، صریح محدودُ الضمان: محدود ذمہ داری والا۔شرکة محدودة (المسئولیة): محدود ذمہ داری کی شرکت، کمپنی، کارپوریشن، مُحَدَّد: تیز کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، معین کیا ہوا، سختی سے حد مقرر کیا ہوا، واضح طور پر تعریف کیا ہوا۔ ـــ ل: کے لئے مقرر شدہ، ٹھہرایا ہوا، مامور کیا ہوا۔ مُحْتَدّ: ناراض، غصہ میں، خشم آلود، طیش میں آیا ہوا، از خود رفتہ، تند و تیز، غضبناک، برہم، آشفتہ، برانگیختہ، بھڑکایا ہوا، آگ بگولہ۔

حدا: حَدَأَ ۔حَدْأً الشيء عنه: کو سے پھیرنا۔ ہٹانا۔

۲۔ حَـدِئَ ۔حَدَأً علیه: پر غضبناک ہونا۔بالمکان: کسی جگہ پر جم جانا۔ الیه: کسی کی پناہ لینا۔ کی پناہ میں آنا۔ ـــ الیه و علیه: پر مہربانی کرنا کی مدد کرنا، کو ظلم سے بچانا۔

۳۔ الحَدَأَة جمع حَدَأ و حِدَاء: دو سروالی کدال۔ جمع حِدَأ و حِدَاء و حِدآن (ح): چیل، عوام، اسے حَدَایَة اور شُوحة کہتے ہیں۔

حدب: احَدِبَ ۔حَدَبًا و اُحْدَبَ الرجلُ: کبڑا ہونا۔ صفت حَدِب و اَحْدَب: مونث حَدِبَة و حَدْباء جمع حُدْب و اَحْدَاب و حَدِبَات۔ حَدَّبَ ہ: کو کبڑا بنانا، خمیدہ کرنا۔ الشیءَ: کو اونچا کرنا، ابھارنا۔اَحْدَبَ ہ: بمعنی حَدَّبَ ہ۔ تَحَدَّبَ: کبڑا ہونا۔تَحَادَبَ و اِحْدَوْدَبَ: کبڑا ہونا۔ الحَدَب: زمین کی سخت اونچی جگہ۔ الحَدَبَة: کبڑاپن۔ پیٹھ میں کبڑی جگہ (کہا جاتا ہے فی ظهره حَدَبَةٌ: اس کی پیٹھ میں خمیدگی ہے)۔ ـــ من الارض: بلند و سخت زمین ـــ من الامور: مشکل کام۔ الحَدْباء: مشکل کام (جمع)۔ (ح): جانور جس کی لاغری اور پیٹھ کی ہڈی سے اس کی کولہوں کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ قحط کا سال، المُحَدَّب: ابھرا ہوا، کبڑا۔ ـــ من الخطوط: ابھری ہوئی لکیر۔

۲۔ حَدِبَ ـــ حَدَبًا علیه: پر مہربان ہونا۔ تَحَدَّبَ علیه: پر مہربان ہونا۔ ـــ به: سے تعلق رکھنا۔ ـــ ت المرأةُ: خاوند کے مرنے کے بعد عورت کا بچوں کے لئے بیٹھ رہنا اور دوسرا شوہر نہ کرنا۔

۳۔ الـحَـدَب: کھال کا نشان۔ (ن) ایک قسم کا پودا۔ الحَدْباء: لاش، الاَحْدَب: تلوار ـــ (ع ا): بازو کی ایک رگ۔

۴۔ اِحْدَوْدَبَ الرملُ: ریت کے قطعے کا لمبا و ٹیڑھا ہونا۔ الحَدَب: موج اور پانی کا بہنے میں تہ بتہ ہونا۔

○ حَـدِبَ ۔حَدَبًا: محدب ہونا، ابھرا ہوا ہونا، گنبد یا قبہ دار ہونا، محراب نما ہونا، خمیدہ ہونا، باہر کی طرف مڑا ہوا ہونا، کبڑا ہونا۔ ـــ علی / ب: پر مہربان ہونا، مشفق ہونا، سے دوستی کا برتاؤ کرنا کے بارے میں فکرمند ہونا، کا مشتاق ہونا، کی نگہداشت کرنا، کا خیال رکھنا، کی بہبود یا برتری کے لئے کوشاں ہونا ـ حَـدَّبَ ہ: کو محدب بنانا، پر منبت کاری کرنا، گل کاری کرنا، کو ابھارنا، قبہ یا گنبد دار بنانا، کو ٹیڑھا کرنا، موڑنا، جھکانا۔ تَحَدَّبَ و احدودب: ٹیڑھا ہونا، موڑ والا ہونا، پیچ دار ہونا، قوسی ہونا، محراب دار ہونا، ابھرواں ہونا، منبت کار ہونا، محدب ہونا۔حَدَب: محبت، شفقت، چاہ، لگن، پیار، مہربانی، پریشانی، تشویش، فکرمندی جمع حِـداب و اَحْدَاب: زمین کی بلندی، ارتفاع، چڑھائی مِن کلِّ حدب و صوب یا من کل صوب و حَدَب: سب طرف سے، چاروں طرف سے، ہر طرف سے۔ فی کلِّ صوب و حدب: ہر جگہ، ہر حلقہ میں، تمام جانب۔حَدِب: مڑا ہوا، ابھرا ہوا، ابھرواں محدب کبڑا، مشفقانہ، دوستانہ۔حَـدَبَة: کبڑاپن، کوہان، کب، کوبڑ، خمیدگی، گولائی، محراب نما یا گنبد نما ہونا۔ اَحْدَب مونث حَدْباء جمع حُدْب: کبڑا، کبا۔خمیدہ پشت، کوزہ پشت، زیادہ مہربان، زیادہ دوستانہ، مُحَدَّب: گل کاری کیا ہوا، منبت کاری کیا ہوا نسبت کار، ابھرا ہوا، محدب۔

حدث: احَدَثَ ۔حُدُوثًا الامرُ: کسی امر کا واقع ہونا الحَدَث جمع اَحْدَاث: واقع ہونے والا امر۔ اَحْداثُ الدهر: مصائب زمانہ۔الحُدْثَی: حادثہ، حوادثُ الدهر: تغیرات زمانہ حِدثانُ الدهرِ و حَدَثانُهُ: زمانہ کی سختیاں۔

۲۔ حَدُثَ ۔حَدَاثَةً و حُدُوثًا: نیا ہونا، نوپید ہونا۔ (جب قَدُمَ کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے تو عین کلمہ پر ضمہ آتا ہے۔ جیسے (اخذني ما قَدُمَ و ما حَدُثَ: مجھے پرانے اور نئے غموں نے آلیا) اَحْـدَثَ ہ: کو ایجاد کرنا، پیدا کرنا۔ اِسْتَحْدَثَ ہ: کو پیدا کرنا۔ ـــ الخبرَ: خبر کو نیا پانا۔ الحَدَث جمع اَحْدَاث و حُدْثان: جوان ـــ جمع اَحْدَاث: خلاف سنت نئی بات، دین میں بدعت۔ حُدُوث العالم عند الفلاسفة: اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا نئی پیدا کردہ ہے اس کے بنانے والے نے اسے ایجاد اور پیدا کیا ہے۔ ازلی نہیں۔ الحَادِث مؤنث حادثة جمع حوادث و حَادِثات: نئی چیز، نوپید، الحدیث جمع حِداث و حُدَثاء: نیا۔ المُحْدَث جمع مُحْدَثَات: (مفع): وہ نئی شے جس کا ثبوت نہ کتاب اللہ، نہ سنت رسول اور نہ اجماع امت میں مل سکے۔ نیا۔ الحَدَاثَة من الامر: کسی امر کا اول اور اس کی ابتداء۔ الحُـدُوثَـة: بمعنی الحَـدَاثَة الحِدثان: کسی امر کا اول اور اس کی ابتداء۔

۳۔ حَـدَّثَ عـن فلان: کسی سے کچھ بیان کرنا۔ روایت کرنا۔ ـــ ہ کذا و بکذا: کو کوئی خبر دینا۔ سے کچھ بیان

کرنا۔ حَادَث ہ سے گفتگو کرنا۔ تَحَدَّثَ بالشیئ وعن الشیئ: کے بارے میں کلام کرنا، گفتگو کرنا، خبر دینا۔ تَحَادَثُوا آپس میں، یا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ الحَدِث و الحَدُث اچھا کلام کرنے والا۔ رجلٌ حِدثُ ملوکٍ: بادشاہوں کا قصہ گو الحدیث جمع اَحَادِیث و حِدْثان و حُدْثان: خبر کہا جاتا ہے۔ صاروا اَحادیثَ: وہ لوگ مر کھپ گئے، اب صرف زبانوں پر ہی ان کا ذکر باقی رہ گیا ہے۔ عِلمُ الحدیث عند المسلمین: رسول اللہ کے اقوال، افعال، حالات بتانے والا علم، اس کی اصل تحدیث یعنی خبر دینا ہے۔ کہا جاتا ہے، حدیثُ خُرافۃَ: یہ مثل اس بات کے لئے بیان کی جاتی ہے جس کا واقع ہونا ناممکن ہو۔ معنی: نا قابل یقین کہانی، افسانوی قصہ۔ الحدیثُ ذو شجون: ایک بات سے بہت سی باتیں پھوٹتی ہیں۔ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ الحِدِّیث: بہت کلام کرنے والا۔ الحُدَّاث: گفتگو کرنے والی جماعت۔ الحِدِّیثی: حدیث۔ خبر۔ مُتَحَدَّثُ القوم: وہ جگہ جہاں لوگ بیٹھ کر باتیں کریں۔ الأُحْدُوثۃ جمع اَحَادِیث: بات۔ خبر۔ کہانی۔ افسانہ۔

۴۔ حَادَثَ السیفَ تلوار کو صیقل کرنا اسی سے ہے۔ کنصل السیف حُودِث بالصقال: تلوار کے پھل کی طرح جس کو صیقل سے جلا دی گئی۔

۵۔ اَحْدَثَ الرجلُ: پاخانہ کرنا۔ الحَدَث جمع اَحْدَاث: پاخانہ۔

○ حَدَثَ ـُ حُدُوثًا: واقع ہونا۔ حَدُثَ ـُ حَدَاثۃً: حال کا ہونا نیا ہونا۔ نوجوان ہونا۔ حَدَّثَ ہ ہ / ب فی / عن: کسی بات کے بارے میں بتانا، سے کسی بات کے بارے میں بیان کرنا، کے علم میں کوئی بات لانا۔ ـــ ہ عن / فی: سے کے بارے میں بات کرنا۔ حَدَّثَہٗ قلبُہٗ اور حَدَّثَتْہُ نفسُہٗ ب اس کے دل نے یا وجدان نے اسے کوئی بات بتائی۔ حَدَّثَ نفسَہٗ ب: اپنے آپ کو کسی کام پر آمادہ کرنا یہ یقین کرنے کی کوشش کرنا کہ کوئی چیز واقعی ہے۔ یہ دیکھنے کی کوشش کرنا کہ کوئی چیز واقعی ہے۔ کوئی کام کرنے کا عزم صمیم کرنا یا کوئی کام کرنا جی میں ٹھان لینا۔ حَدَّثَ نفسَہٗ ان: اس نے اپنے آپ سے کہا کہ، اپنے آپ کو بتایا کہ حَادَثَ ہ فی / عن: سے کے بارے میں بات کرنا، گفتگو کرنا، سے کے بارے میں بحث کرنا، بات چیت کرنا۔ ـــ ہ: سے گفت و شنید کرنا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، صلاح مشورہ کرنا، کو مخاطب کرنا، سے ٹیلیفون پر بات کرنا۔

اَحْدَثَ ہ کو بنانا، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، وجود میں لانا، کی بنیاد رکھنا کو قائم کرنا، کا باعث ہونا، کا باعث بننا، کی ترغیب دینا، کو کرنا، انجام دینا، عمل میں لانا۔ ـــ بول و براز کرنا۔ اَحْدَثَ حَدَثًا: کا باعث بننا (خصوصاً بڑے کام) مصیبت، شرارت وغیرہ کا باعث بننا) تَحَدَّثَ إلی عن / ب / فی: سے کے بارے میں یا کی بات کرنا۔ گفتگو کرنا۔ ـ الی / مع عن / ب / فی: کے ساتھ کے بارے میں باتیں کرنا، بات چیت کرنا، گپ شپ اڑانا۔ تَحَادَثَ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ اِسْتَحْدَثَ ہ کو نیا بنانا، دوبارہ کرنا، کی تجدید کرنا، کو نیا خریدنا، کو پیدا کرنا، تخلیق کرنا، وجود میں لانا، ایجاد کرنا، شروع کرنا، کو رائج کرنا، چلانا۔ ـ ہ کو نوجوان پانا یا سمجھنا۔ حَدَث جمع اَحْدَاث: نئی بے مثال چیز۔ نئی یا نرالی چیز۔ نیا خیال۔ نیا طریقہ، نئی بات، واقعہ، ماجرا، عجیب و غریب واقعہ، مظہر، بری علامت، فعل بد، برا کام، مجرمانہ فعل، حادثہ، بدبختی، مذہبی رسوم کی رو سے ناپاکی، پاخانہ، بول و براز۔ جمع اَحْدَاث و حُدثان: نوجوان۔ اَحْدَاث: کمسن، نوعمر، نابالغ (بچے) حَدِیث جمع حِدَاث و حُدَثاء: نیا، انوکھا، حال کا حالیہ، ابھی کا تازہ، تازہ ترین، جدید، موجودہ زمانے کا، عصر حاضر کا۔ حَدِیثًا: حال ہی میں، کچھ عرصہ قبل۔ حَدِیثُ البناء: نئی بنی ہوئی، حال ہی میں تعمیر ہونے والی (عمارت وغیرہ)۔ حَدِیثُ السِن: نوجوان۔ حدیثُ العَهْد: حال ہی کا، کچھ عرصہ قبل کا، حالیہ، حال کا، نیا، نوجوان۔ حدیثُ عهدٍ ب یا حدیثُ العَهْدِ ب: حال ہی میں اختیار کیا ہوا یا حاصل کیا ہوا، حال ہی میں، جس کا زیادہ عرصہ سے عادی نہ ہو، کا ناتجربہ کار، میں نیا، ابھی حال ہی میں۔ حدیثُ العهد بالولادۃ: نومولود حدیث العهد بالزواج: نیا شادی شدہ۔ کان حدیثُ العهدِ باوروبا: اس کو کچھ عرصہ قبل ہی یورپ سے واقفیت ہوئی تھی۔ حَدِیث جمع اَحَادِیث و حِدثان: گفتگو، بات، گپ شپ، بات چیت، باتیں، عام بات، بحث، مباحثہ، انٹرویو، رپورٹ، بچوں کی باتیں، سرگزشت، کہانی، قصہ، رسول اللہ کی حدیث، حدیثُ خُرافۃ: افسانوی قصہ، احمقانہ بات۔ حدیثٌ قُدسِیٌّ: وہ حدیث جس میں بات کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہو۔ حدیثٌ نَبَوِیٌّ: رسول اللہ کی کہی ہوئی بات حدیثُ النفس: دل کی بات۔ پیش اندیشی، پیش آگاہی، یہ احساس کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ الحَادِث: کسی حالت کا شروع ہونا اور معلوم ہونا

کہ جاری رہے گا۔ وقوع (مظہر کا) دائرہ اثر، واقعہ، ماجرا، حادثہ۔ حَدَاثۃ: نیاپن، انوکھاپن، عالم شباب، سن بلوغ، جوانی، شباب، نوعمری، احدث زیادہ نیا، زیادہ حالیہ۔ حِدثان (یا حَدَثان) الدهر: بدبختی، آفات، مصائب، شکستیں۔ اُحْدُوثۃ جمع اَحَادِیث: گویائی، گفتار، نطق، بیان، بات سخن، تقریر، بحث مباحثہ، بات چیت، بک بک، فرضی قصے کہنا، جھوٹ بولنا، غپ شپ، غپ، جھوٹ، گپی گفتگو کا موضوع، گپ شپ۔ افواہ (کسی شخص کے بارے میں) حُسنُ الأُحْدُوثۃ: (کسی کی) تعریف، ستائش۔ سوءُ الاحدوثۃ: بہتان، رسوائی، ہتک۔ مُحَادَثۃ جمع محادثات: مباحثہ، گفتگو، بیان بات چیت، مکالمہ، بحث، گفت و شنید، مذاکرات۔

حَادِث: واقع ہونے والا، نیا، تازہ، حال ہی کا جمع حَوَادِث (و حادثات): واقعہ ضمنی قصہ، ضمنی واقعہ، حادثہ، افسوسناک حادثہ، مقدمہ، دعوی۔ حادثُ تزویر: جعلسازی کا کیس۔ مکانُ الحادث: جائے وقوعہ، جائے حادثہ، کارروائی کی جگہ۔ حَادِثۃ جمع حَوَادِث: واقعہ، (کھیل کا) پلاٹ، درمیانی واقعہ، داستان در داستان، ضمنی بیان یا قصہ، حادثہ، افسوسناک حادثہ۔ حادثۃ المرور: ٹریفک ایکسیڈنٹ۔ مُحَدِّث جمع مُحَدِّثون: بولنے والا، بات کرنے والا، ترجمان، گفتگو میں حصہ دار، مکالمہ میں حصہ لینے والا، بیان کنندہ، کہانی بیان کرنے والا، رسول اللہ کی احادیث بیان کرنے والا، روایتی، علم یا مطالعہ حدیث کا نمائندہ، گراموفون، مُحْدَث: نیا، انوکھا، حالیہ، حال کا، کچھ عرصہ قبل کا، جدید، عصر حاضر کا، نو دولتیا، چھچھورا، مُتَحَدِّث: ترجمان، (Spokesman)، بولنے والا، اسپیکر Speaker مُسْتَحْدَث: نیا، انوکھا، جمع مُسْتَحدثات: انوکھاپن، نئی چیز، نئی بات، نیا خیال، نیا طریقہ، تازہ ایجاد، نئی مصنوعہ چیز، نئی تراشیدہ اصطلاحات، دینی عقائد میں عقلیات کا دخل۔

حدج: ۱۔ حَدَجَ ـِ حَدْجًا البعیرَ: اونٹ پر ہودہ / بوجھ لادنا۔ ـــ الأحمال: بوجھوں کو باندھنا، کسنا، اَحْدَجَ البَعیرَ: اونٹ پر بوجھ لادنا، ہودہ باندھنا۔ الحِدج جمع حُدُج و حُدُوج و اَحْدَاج: بوجھ ـــ و الحِدَاجۃ جمع حَدَائج: عورتوں کی اونٹ پر سواری کا ہودج، عماری۔

۲۔ حَدَجَ ـــ حَدْجًا الإبلَ: اونٹوں پر داغ لگانا المِحْدَج: اونٹوں کو داغ لگانے کا اوزار۔

۳۔ حَدَجَ ـِ حَدْجًا ہ: کو مارنا، پیٹنا۔ ـہ بالسهم: کو

تیر مارنا۔۔۔ وحَدَّجَ ببصرہ: گھورنا، تیز نظر سے دیکھنا۔

۴۔ حَدَجَ ـِ حَدْجًا ہ بالذنب: پر گناہ کا الزام لگانا، کہا جاتا ہے۔ حدجہ ببیعِ سوءٍ: اس نے اس پر ایسی بیع لازم کردی جس میں سراسر خسارہ ہے۔

۵۔ الحَدَج (ن): کچا اور سخت اندرائن۔ ابو حدَیْج (ح): لقلق پرندہ کی کنیت۔

○ حَدَجَ ـِ وحَدَّجَ ہ/ہ (اکثر ببصرہ یا بنظرہ کے ساتھ) کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، ابو حُدَیْج بگلا، لقلق، حِداجۃ جمع حَدائج: اونٹ کی کاٹھی، زین۔

حدر ۱۔ حَدَرَ ـِ حَدْرًا و حُدُورًا: نیچے اترنا۔ ــــ الشئَ: کو نیچے اتارنا۔ ـت العینُ الدمعَ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ ـ القراءۃ وفی القراءۃِ: تیزی سے پڑھنا۔ ـ الدواءُ بطنَہُ: دواء کا اسہال لانا۔ اَحْدَرَہٗ: کو نیچے بھیجنا، نیچے کرنا۔ ـ القراءۃ او المشیَ: تیز پڑھنا، تیز چلنا۔ تَحَدَّرَ و تَحادَرَ: نیچے اترنا، کہا جاتا ہے۔ رایتُ الدمعَ یتحادر علی لحیتہ: میں نے دیکھا کہ آنسو اس کی داڑھی پر بہہ رہا تھا۔ اِنْحَدَرَ: اترنا نیچے اترنا، کہا جاتا ہے۔ انحدرت من الجبل الیِ المدینۃَ: میں پہاڑ سے اتر کر شہر گیا۔ الحَدَر: ڈھلوان جگہ۔ اتار کی جگہ۔ الحادِر (فا) من الجبال: اونچا پہاڑ۔ الحَدُور و الحَدْراء: ڈھلوان، الحادُور جمع حَوادِر: ڈھلوان، اسہال آور۔ الحَدُوْرَۃ و الحُدُورَۃ و الحادُورۃ: آنکھ سے آنسوؤں کا بہاؤ۔ المُنْحَدر: ڈھلوان جگہ۔

۲۔ حَدَرَ ـِ وحَدُرَ ـُ حَدْرًا و حُدُورا وحَدارَۃً الرجلُ: موٹا اور مضبوط ہونا الحَادِر: خوبصورت، موٹا (کہا جاتا ہے ناقۃٌ حادرۃ العینین: پر گوشت حسین آنکھوں والی اونٹنی) سخت، شیر۔ حبل حادِرٌ: مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ حیّ حادِر: اکٹھا قبیلہ۔ الأحْدَر مؤنث حدراء من الخیل: پر گوشت گھوڑا۔ الحَدْرَۃ من العیون: پر گوشت آنکھ۔ الحَیْدَر والحَیْدَرَۃ: شیر۔

۳۔ حَدُرَ ـُ حَدْرًا وحُدُورًا وحَدارۃً الجلدُ: جلد کا سوجنا۔ حَدَرَ ـِ حَدْرًا الجلدُ: جلد کا سوجنا۔ ــــ الجلدَ: کھال کو متورم کرنا۔ اَحْدَرَ الجلدَ: جلد کو متورم کرنا۔ الجلدُ: جلد کا سوجنا۔ اِنْحَدَرَ الجلدُ: کھال، جلد کا سوجنا، متورم ہونا۔ الحَدْرَۃ (طب): پپوٹے کے اندر کا زخم۔

۴۔ حَدَرَ ـِ حَدْرًا و حُدُورًا اللثامَ عن حَنَکِہٖ: نقاب جھکانا۔ الحَدَر: آنکھ کا بھینگا پن۔

۵۔ حَدَرُوا حولہ وبہ: کو گھیر لینا، کے گرد پھرنا۔

۶۔ اَحْدَرَ الثوبُ: کپڑے کا دامن چننا۔

۷۔ الحُدْرَۃ: اونٹوں کا ریوڑ، الحَیْدَر: کوتاہ قد، پستہ قد۔ الحَیْدَرَۃ: ہلاکت، کہا جاتا ہے۔ رَمَاہُ اللّٰہ بالحَیْدَرَۃ: اللہ اسے مصیبت و ہلاکت سے دوچار کرے۔

۸۔ الحُنْدُر والحُنْدُور والحُنْدُورَۃ والحِنْدارَۃ: آنکھ کی پتلی، کہا جاتا ہے۔ ھو علی حُنْدُرِ عینہ: وہ اسے پریشان کن پاتا ہے اس لئے بغض کی وجہ سے اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ جعلتُہ علی حُنْدُورَۃ عینی: میں نے اسے اپنا نصب العین بنایا۔

○ حَدَرَ ـُ حَدْرًا وحَدارَۃً: موٹا ہونا۔ حَدَرَ ـِ حَدْرًا وحُدُورًا ہ: کو نیچے اتارنا، کو گرانا، (آنسو) بہانا حَدَرَ حَدْرًا: کوئی چیز سمجھے بغیر فر فر پڑھ دینا۔ کا جلدی سے اظہار کرنا۔ حَدْرًا: نیچے اترنا، نیچے آنا، پھسلنا، اچانک نیچے آنا۔ حَدَّرَ ہ: کو گرانا، نیچا کرنا، جھکانا، ڈبکانا۔ تَحَدَّرَ: بتدریج اترنا، پھسلنا، نیچے آنا، نیچے اترنا، (آنسوؤں) کا بہنا۔ ــــ من: سے حاصل کرنا، مشتق ہونا، نکلنا، شروع ہونا۔ اِنْحَدَرَ: نیچے آنا، نیچے جانا، اترنا، نیچے پھسلنا، ڈوبنا، جھکنا، گھٹنا، کم درجہ ہونا (آنسوؤں کا) بہنا، ڈھلوان ہونا، جھکنا۔ ــــ اِلی: کسی جگہ آنا پہنچنا۔ حَدْر: قرآن مجید کی تیز تلاوت حَدُور: ڈھلان، تنزلی، ڈھلوان، اونچی جگہ، تَحَدُّر: ڈھلان، اِنْحِدار: ڈھلان، ڈھال، جھکاؤ، ڈھلان کا درجہ نیچے کو جانے والا راستہ، آبشار، نشیب، تباہی، زوال، انحطاط، تنزل، حادِر ہونا، گھنا، مُتَحَدِّر: اترنے والا، ڈھلوان، مُنْحَدِر: اترنے والا، نیچا، ڈھلوان، ڈھلوان جگہ، رو بہ زوال، تنزل میں، زوال پذیر، بری حالت میں، بھدا، بھیت کذائی والا، بے گھر بے مایہ، پہلے سے کم، دلکش، مُنْحَدَر جمع منحدرات: نشیب، گڑھا، ڈھلان، پشتے کا ڈھلوان حصہ، ڈھلوان پشتہ، ڈھال، جھکاؤ، آبشار۔

حدس ۱۔ حَدَسَ ـِ حَدْسًا فی الامر: کا گمان کرنا، تخمینہ لگانا، وہم کرنا، آپ کہتے ہیں: بلغنی عن فلان امرٌ وانا احدس فیہ: میرے پاس فلاں شخص سے ایک بات پہنچی ہے۔ میں اس پر قیاس آرائی کر رہا ہوں۔ تَحَدَّسَ الخبار و عن الاخبار: چھپ کر اور خفیہ طور سے خبریں دریافت کرنے کی کوشش کرنا۔ الحَدْس (مص): تیز فہمی، زیرکی، دانائی۔ الحِداس: غایت، انتہاء، کہا جاتا ہے: بلغتُ بہِ الحِداس: میں اس کی انتہا تک پہنچ گیا۔ المَحْدَس: مطلب، کہا جاتا ہے۔ فلانٌ بعیدُ المحدس: فلاں کا مطلب بلند و بڑا ہے۔ الحَدْسِیّات: فراست سے معلوم کی ہوئی باتیں۔

۲۔ حَدَسَ ـِ حَدْسًا فی السیر: تیز چلنا۔ ــــ فی الارض: زمین پر بے پتہ چلتا جانا۔ ـ الشئ برجلہ: کو روندنا۔ ــــ الشاۃَ و بالشاۃ: بکری کو ذبح کرنے کے لئے لٹانا۔ ـ بہ الارضَ: کو زمین پر گرا دینا، پٹک دینا۔ الحَدِیس والمَحْدُوس: زمین پر پچھڑا ہوا۔

۳۔ حَدَسَ ـِ حَدْسًا زیدًا: زید کو پچھاڑنا۔

○ حَدَسَ ـِ حَدْسًا ہ: کا اندازہ لگانا، پر قیاس آرائی کرنا، کا قیاس لگانا، کو انکل سے کہنا، اندازے سے کہنا، کا اندازہ کرنا، حَدْس: قیاس آرائی، قیاس، اندازہ، انکل وجدان۔

حدق ۱۔ حَدَقَ ـِ حَدْقًا القومُ بہ: کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ حَدَّقَ بہ: کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ اَحْدَقَ القومُ بہ: کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ ـت الروضۃُ: باغ کا چار دیواری میں گھرنا تَحادَقُوا: ایک دوسرے کو گھیرنا۔ افْحَدَوْدَقَ القومُ بہ: کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ الحدیقۃ جمع حدائق: چار دیواری والا باغ۔

۲۔ حَدَقَ ـِ حُدُوقًا المریضُ: بیمار کا آنکھ کھول کر دیکھنا۔ ـ حَدْقًاہ بعینہ: کی طرف دیکھنا۔ ـ کی آنکھ کی سیاہی پر مارنا۔ حَدَّقَ الیہ: کو گھور کر دیکھنا، تیز نظر سے دیکھنا۔ الحَدَقَۃ جمع حَدَق و حَدَقات و اَحْداق و حِداق (ع ا): آنکھ کی سیاہی کہا جاتا ہے۔ ھم فی مثل حَدَقَۃِ البعیر: ان کو فراخی اور پانی کی فراوانی خوب نصیب ہے۔ ھم رُماۃُ الحَدَق: وہ لوگ تیر اندازی میں خوب ماہر ہیں۔ تکلمتُ علی حَدَقِ القوم: میں نے باتیں کیں تو لوگوں کی نظریں مجھ پر تھیں۔

۳۔ الحَدَقَ (ن): بینگن۔

○ حَدَّف وحَذّاف و حداف الماکوک: جولاہے کی نال جس سے دھاگا ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ طارۃ حَدّافۃ: فلائی وہیل Fly wheel (بھاری پہیہ جو مشین کو یکساں رفتار سے چلتا رکھنے کیلئے گھومتا ہے)۔

○ حَدَقَ ـِ حَدْقًا ب: کو گھیرنا۔ ــــ ہ بعینہ: کی (طرف) دیکھنا۔ پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا۔ چھچھلتی ہوئی نظر ڈالنا۔ حَدَّقَ اِلی / فی / ب: کی طرف دیکھنا، پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، کو گھورنا، کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، تکنا۔ حَدَّقَ النظر فی: پر سرسری یا اچٹتی ہوئی نظر گاڑنا۔ اَحْدَقَ ب: کو گھیرنا۔ ــــ الی / فی / ب: کو

تکنا، دیکھنا، پر اچٹتی یا جھجھلتی نظر ڈالنا۔ اَحْدَقَ النظر: پر سرسری یا اچٹتی نظر گاڑنا۔ حَدَقَة جمع حَدَقات و حَدَقَ و حِداق و اَحْداق: آنکھ کی پتلی۔ احداق: اچٹتی ہوئی نظریں۔ حدیقة: جمع حدائق: باغ۔ حدیقة الحیوانات: چڑیا گھر۔ اِحْدَاقٌ ب: کو گھیرنا۔ خَطَرٌ مُحْدِقٌ: سر پر کھڑا خطرہ۔ حَدَّقَ (بمعنی حذق) ہ: کو تیزابی، کھٹا، ترش، یا تیز بنانا۔ حادِق: (حاذق) کھٹا، ترش، تیزابی یا تیز (ذائقہ)۔

حدل: ۱۔ حَدَلَ ـِ حَدْلًا و حُدُولًا علیه: ظلم سے کے خلاف ہونا۔ حَدِلَ ـَ حَدَلًا علیه: پر ظلم کرنا۔ الحَدْل (مص): کہا جاتا ہے انه لَحَدْلٌ: وہ عادل نہیں۔

۲۔ حَدَلَ ـِ حَدْلًا و حُدُولًا السطحَ: سطح پر رولر پھیرنا۔ حَدِلَ ـَ حَدَلًا: ایک کندھے کا دوسرے سے بلند ہونا صفت اَحْدَل مونث حَدْلَاء جمع حُدُل (خلاف قیاس) و حَدِل جمع حَدَالی۔ تَحَادَلَ: کمان پر جھکنا۔ الحِدْل: گردن کا درد۔ الأَحْدَل: جس کے کندھوں اور گردن پر جھکاؤ ہو۔ الحُدَال: چکنا۔ المِحْدَلَة: رولر (Roller) بیلن۔ مِحْدَلَةُ الطریق: سٹیم رولر۔ سڑک کوٹنے کا انجن۔

۳۔ حَادَلَ ہ: سے دورخی سے کام لینا، کو ڈبل کراس کرنا۔

۴۔ الحِدْل: ازار باندھنے کی جگہ۔ الحَوْدَلة: ٹیلہ۔

○ حَدَلَ ـِ حَدْلًا ہ: کو چپٹا کرنا، ہموار کرنا، برابر کرنا، بیلنا۔ حَدْلًا و حُدُولًا علی: سے ناانصافی سے پیش آنا۔

حدم: حَدَمَ ـِ حَدْمًا ہ: کو تیز گرم کرنا۔ ـــ الدمَ: خون کو گہرا سرخ کرنا۔ تَحَدَّمَ و اِحْتَدَمَ الرجلُ: غصہ سے مشتعل ہونا۔ اِحْتَدَمَ النهارُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ ـــ الدمُ: خون کا گہرا سرخ ہونا یہاں تک کہ سیاہ ہو جانا۔ ـــ الشرابُ: شراب کا جوش تیز ہونا۔ ـــتِ القدرُ: ہانڈی کا سخت ابلنا۔ الحَدْم و الحَدَم: آگ کی تیز بھڑک۔ سخت شعلہ زنی۔ الحَدَمَة: آگ بھڑکنے کی آواز۔ الحدام: غیض و غضب۔ غصہ۔

○ اِحْتَدَمَ: جلنا، دہکنا، دمکنا، لہکنا، لال ہونا، بھڑکنا، شعلہ زن ہونا، روشن ہونا، آگ سے بھسم ہو جانا، ختم ہو جانا، (جنگ) تیز ہو جانا، جنگ لگ جانا۔ ـــ علی: پر غضبناک ہونا، برہم ہونا، طیش کھانا۔ اِحْتَدَمَ غیظًا: غضبناک ہونا، برہم ہونا، طیش کھانا۔ اِحْتِدَام: دورہ، باری، غلبہ، جذباتی دورہ۔ مُحْتَدِم: غضبناک، برہم، طیش میں آیا ہوا۔ غصہ میں۔

حدا: ۱۔ حَدَا ـُ حَدْوًا و حِدَاءً و حُدَاءً: بلند آوازی سے حدی گانا، کہا جاتا ہے۔ ما أَمْلَحَ حُدَاءَ ہ: اس کا حدی کا گانا کس قدر پسندیدہ ہے۔ الابلَ و بالابل: اونٹوں کو حدی خوانی کرتے ہوئے ہانکنا۔ صفت حادٍ جمع حُدَاة ـــ الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو چلانا، ہانکنا ـــ ہ علی کذا: کو پر برانگیختہ کرنا۔ الحادِی: اونٹوں کو گا کر ہانکنے والا۔ الحَدَّاء: حادی کا مبالغہ کا صیغہ۔ الأُحْدُوَّة و الأُحْدِيَّة: اونٹوں کو ہانکتے وقت گایا جانے والا گیت۔ الحَدْوَاء: شمالی ہوا۔

۲۔ حَدَا ـُ حَدْوًا و اِحْتَدَی اللیلُ النهارَ: رات کا دن کے بعد آنا۔ الحادِی فی الحادی عشر: حادی عشر میں حادِیٌ "واحد" کا مقلوب ہے ـــ و حادِی النجم (فلك) دوستارے۔ الحَوَادِی: ٹانگیں۔ ہر چیز کے آخری حصے۔

○ حَدَا ـُ حَدْوًا و حُدَاءً و حِدَاءً ہ / ب إلی: کو پر اکسانا، آمادہ کرنا، پر کیلئے زور دینا، کو کی مہمیز کرنا۔ حداب: پر اکسانا، ابھارنا، کی شہ دینا ـــ: جھولنا، ہلنا، جھولتے جانا، ہلتے جانا (اونٹ پر سوار ہو کر) حدا بهم الحدیثُ إلی: ان کی بات چیت انہیں...... تک لے گئی۔ غَرَضٌ تُحْدَی الیه الرکائبُ: بہت مطلوب مقصد یا ایسا مقصد جس کے لئے کوشش کی جانی چاہئے۔ تحدی ہ: کے خلاف مقابلہ میں حصہ لینا۔ ہ / ہ: کو چیلنج کرنا کو اشتعال دلانا۔ کے مقابلہ میں آنا، کا مقابلہ کرنا، کے مقابلے میں جمے رہنا، کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ـــ ہ: کو تیز کرنا، اکسانا، ابھارنا، جگانا، اٹھانا، میں جان ڈالنا، روح پھونکنا ـــ ذکاء ہ: کی ذہانت تیز کرنا ـــ ہ: کو کرنے کا ارادہ کرنا، کو کرنے پر تل جانا۔ حَدَّاء: اونٹ ہانکنے والا۔ ساربان، شتر سوار، شتربان۔ أُحْدُوَّة و أُحْدِيَة: شتربانوں کا گیت۔ تَحَدٍّ: چیلنج، اشتعال۔ حادٍ جمع حُدَاة: میر کارواں (جو گا کر اونٹوں کو ہانکتا ہے) شتربان، شتر سوار، رہنما۔ مُتَحَدٍّ: چیلنج کرنیوالا، اشتعال دلانے والا۔ حَدِیَ ـَ ب: کسی جگہ رہنا، ٹھہرنا، کسی جگہ سے وابستہ رہنا۔

حدی: حَدِیَ ـَ حَدًی بالمکان: کسی جگہ جم کر رہنا۔ حَدَّی الشیءَ: کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ تَحَدَّی الرجلَ: سے مقابلہ کرنا اور غالب آنا ـــ الشیءَ: کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ الحُدَیَّا: جھگڑا، مقابلہ، کہا جاتا ہے: هو حُدَیَّا الناس: وہ لوگوں سے مقابلہ کرنیوالا ہے۔ و انا حُدَیَّاكَ فی هذا الأمر: اور میں اس معاملہ میں تمہارا مقابلہ کروں گا، نکل کر مجھ سے ہم آہنگی کرو۔

حذّ: حَذَّ ـُ حَذًّا ہ: کو جلدی کاٹ دینا۔ الحُذَّة: گوشت کا ٹکڑا ـــ الحَذَذ: چوری میں ہاتھ کی ہلکی یا دم کے بالوں کا ہلکا پن۔ حَذَذُ القلب: دل کی ذکاوت اور تیز فہمی۔ الأَحَذّ مونث حَذَّاء جمع حُذّ: تیز (رفتار) ناقة حَذَّاءُ: تیز رفتار اونٹنی۔ قصیدة حَذَّاء: مشہور و معروف قصیدہ۔ حاجَةٌ حَذَّاءُ: سریع التکمیل اور جلد کامیاب ہونے والی حاجت۔ عزیمةٌ حَذَّاء: پختہ و مصمم ارادہ) ہلکی دم والا، ہلکے ہاتھ والا، دبلا۔ قلبٌ أَحَذّ: ذکی دل۔ امرٌ أَحَذّ: ناپسندیدہ سخت، بے مثل امر۔

حذر: حَذِرَ ـَ حَذَرًا و حِذْرًا و مَحْذُورَةً الرجلَ و من الرجل: سے بچنا۔ ہوشیار رہنا۔ چوکنا رہنا۔ صفت: حَذِر و حَذُر جمع حَذِرُون و حَذَارَی، حَذَّرَہ: کو ڈرانا، متنبہ کرنا، بچانا۔ حَاذَرَہ: ایک دوسرے سے محتاط رہنا۔ ڈرتے رہنا۔ و احتذرہ و تحذّر منه: سے بچتے رہنا، ہوشیار رہنا۔ اِحْذَارَّ: غضبناک و منقبض ہونا۔ حَذَارِ: اسم فعل بمعنی: ڈرو، خوف کرو۔ کہا جاتا ہے۔ حَذَرَایْكَ زیدًا: زید سے بار بار بچو۔ الحاذِر (فا): مستعد، تیار۔ الحُذُرَّی: باطل۔ المَحْذُور: وہ چیز جس سے بچا جائے۔ المَحْذُورَة: ڈر، گھبراہٹ، خوفناک مصیبت، لڑائی، جنگ۔ الحِذْرِیان: چوکنا۔ الحاذورة: بہت محتاط، بہت چوکنا۔ الحُذَارِیات: ڈرانے والے۔

○ حَذِرَ ـَ حِذْرًا و حَذَرًا ہ / ہ / من: سے محتاط رہنا، سے چوکس، چوکنا یا ہوشیار ہونا، سے بچنا۔ حَذَّرَ ہ من: کو کے بارے میں یا سے متنبہ کرنا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، کو سے بچانا۔ حَاذَرَ: خبردار ہونا، ہوشیار ہونا۔ ہ: سے چوکنا، چوکس یا ہوشیار ہونا محتاط ہونا۔ تَحَذَّرَ من: سے محتاط ہونا۔ بچنا۔ احتذر بمعنی حَذِرَ۔ حِذْر و حَذَر: احتیاط چوکسی، خبرداری، ہوشیاری، بچنا۔ اَخَذَ حَذَرَہُ: چوکنا، چوکس، یا ہوشیار ہونا۔ علی حَذَرٍ: احتیاط سے، چوکسی سے ـــ من: سے بچتے ہوئے، سے احتیاط کرتے ہوئے، حَذِر محتاط، چوکس، چوکنا، ہوشیار، حَذَارِ من: سے خبردار، بچ محتاط ہو، سے چوکنا رہو ـــ ان: کچھ کرنے سے بچ۔ تحذیر من: کے متعلق تنبیہ، کے خلاف احتیاط، چوکسی، سے خبرداری، مُحَاذَرَة: احتیاط، چوکسی، خبرداری، پیش بندی، حفظ ماتقدم، احتیاطی تدبیر۔ مَحْذُور: جس سے خبردار ہونا چاہئے، بچنا چاہئے، احتیاط کی چیز، جمع مَحْذُورات: خطرہ، سخت خطرہ، مصیبت، مشکل، بدبختی۔

حذف: ۱۔ حَذَفَ ـِ حَذْفًا ہ: کو کاٹنا، گرانا۔ حَذَّفَ الشیءَ: کو اچھے طریقے سے کرنا یعنی ہر غیر ضروری چیز کو ترک کر کے تمام عیوب سے پاک صاف کرنا۔

ـــ شَعرَهٗ: بالوں کو برابر کرنا۔ زلف نکالنا۔ الحُذافَة من الشيِ: تھوڑی چیز۔ تراشہ۔

۲۔ حَذَفَ ـِ حَذفًا ہٗ بالعصا او الحجر کو لاٹھی یا پتھر سے مارنا۔ تَحَذَّفَ ہٗ بالعصا کو لاٹھی سے مارنا۔ یا لاٹھی پھینک کر مارنا۔

۳۔ حَذَفَ ـِ حَذفًا فی مشیتہ چلنے میں قریب قریب قدم رکھنا۔

۴۔ الحَذَف (ح): چھوٹی قسم کی بھیڑیں۔ حَذَفُ الزرع: کھیتی کے پتے۔ الحَذَف واحد حَذَفَة (ح): ایک قسم کی بط۔ الحُذفَة: پست قد عورت۔ الحُذافَة من الشيِ: تھوڑی چیز۔

۵۔ الحِذفار و الحُذفُور جمع حَذافِیر جانب (کہاجاتا ہے اخذہ او نالہ بحِذفارہ و بحُذفُورہ و بحَذافِیرہٖ اس نے وہ سب لے لیا)۔ انبوہ کثیر لڑائی کے لئے تیاری کرنے والے۔ کہاجاتا ہے۔ اُشدُد حذافِیرک تیار ہو جاؤ۔

○ حَذَفَ ـِ حَذفًا ہ / من کو کم کرنا مختصر کرنا، کاٹنا، کترنا، تراشنا، قلم زن کرنا، حذف کرنا، میں تخفیف کرنا، کو قطع کرنا، چھوٹا کرنا، ـــ من: سے کچھ لے جانا، کاٹ ڈالنا کم کر دینا، کو قلمزن کرنا، منسوخ کرنا۔ ـــ ہ: کو منسوخ کرنا، قلمزن کرنا، قلمزد کرنا، خارج کرنا۔ ـــ پر قلم پھیرنا، کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، کو نہ کرنا، ممنوع قرار دینا، کی اشاعت روک دینا۔ ـــ ہ کو کم کرنا، مجرا کرنا، کو تفریق کرنا، منفی کرنا، گھٹانا، نکالنا (حساب) ـــ ب پر کوئی چیز پھینکنا۔ ـــ ب کو پھینک دینا، رد کر دینا، ترک کر دینا۔ حَذَّفَ ہ کو کاٹنا، تراشنا، کی کانٹ چھانٹ کرنا، کو کانٹ چھانٹ کر کے درست کرنا، کو کوئی شکل دینا، کو کاٹ کر، کانٹ چھانٹ کر یا تراش کر مناسب شکل میں تبدیل کرنا۔ حذف چھوٹا کرنا، کم کرنا، گھٹانا، قطع کرنا، کانٹ چھانٹ، منسوخی، تنسیخ، قلمزنی، قلمزدگی، اخراج، ترک کرنا، چھوڑ دینا، فرو گزاشت، حذف۔ اخذہ بحذافیرہ اس نے وہ سب کچھ لے لیا۔ تمام کا تمام لے لیا۔

حذق ا۔ حَذَقَ ـِ و حَذِقَ ـَ حَذقًا و حِذقًا و حَذاقًا و حِذاقًا و حَذاقَةً و حِذاقَةً الکتابَ ساری کتاب کا مطالعہ کرنا، ماہر ہونا صفت: حَاذِق جمع حُذَّاق و حِذاق ـــ العملَ: کام میں ماہر ہونا۔ حَذَّقَ ہ کو ماہر بنانا۔ تَحَذَّقَ ماہر ہونا۔ ـــ علیہ پر مہارت ظاہر کرنا۔ الحُذاقِیّ فصیح زبان والا۔

۲۔ حَذَقَ ـِ حَذقًا الشيَ: کو کاٹنا۔ اِنحَذَقَ کٹنا۔ کہاجاتا ہے۔ حَذَقتُ الحبلَ فانحذق میں نے رسی کو کاٹا تو وہ کٹ گئی۔ الحِذقُ جمع حِذَق و حُذاق: (آخری غیر قیاسی ہے) ٹکڑا۔ الحَذِیق کٹا ہوا۔ الأحذاق: ٹکڑے کہاجاتا ہے۔ حبلٌ اَحذاق: کٹی ہوئی رسی جمع کے ساتھ صفت لاتے ہیں جیسے ثوبٌ اخلاقٌ۔ الحُذاقِیّ تیز چھری۔

۳۔ حَذَقَ ـِ حُذُوقًا الخلُّ: سرکہ کا بہت ترش ہونا۔ ـــ الخلُّ فاہٗ سرکہ کا منہ کو چرکا دینا الحاذِق (فا) جمع حُذَّاق و حِذاق من الخلّ بہت تیز سرکہ۔

۴۔ الحُذاقَة تھوڑا کھانا۔ الحُذاقِیّ (ح) گدھے کا بچہ۔

○ حَذِقَ ـَ و حَذَقَ ـِ حِذقًا و حَذاقَةً (ہ/فی) میں ماہر ہونا، ہنر مند ہونا، آزمودہ کار ہونا، بہت منجھا ہوا ہونا، قابل، لائق، واقف یا ذی علم ہونا۔ ـــ ہ میں کمال حاصل کرنا، استاد ہونا، حاوی ہونا، حَذَقَ ـُ حُذُوقًا: ترش ہونا۔ تَحَذَّقَ ماہر ہونے کا بہانہ کرنا۔ قابلیت کا حیلہ کرنا، چالاک اور بانکا بننا حِذق اور حَذاقَة: مہارت، ذہانت، چابک دستی، سبک دستی، تیز فہمی تیز طبعی، چالاکی ہوشیاری، سمجھ، عقل، فہم، فراست، بصیرت، زیرکی، ذکا، دقیقہ رسی، حَاذِق جمع حُذَّاق: ماہر، ہنر مند، آزمودہ کار، قابل، لائق، اچھی طرح واقف۔ ذی علم، ہوشیار، تیز طبع، زیرک، چتر، سیانا، دانشمند خبردار، تیز فہم، ترش، کھٹا۔ تَحَذلَقَ چالاک یا ہنرمند بننا، مہارت یا علم و معرفت کا بہانہ کرنا۔ اپنے علم کو فخریہ طور پر ظاہر کرنا حَذلَقَة مہارت، ہنرمندی، کاریگری۔

حذل ا۔ حَذِلَ ـَ حَذَلًا تِ العینُ آنکھ کی پلکیں گرنا۔ صفت: حَذلاء۔ اَحذَلَ العینَ پلکوں کے بال گرانا۔ الحَذَل پپوٹے کے بالوں کا گرنا، پلکوں کا گرنا۔ الحُذالَة چاول یا کسی اور چیز کی بھوسی۔

۲۔ تَحَذَّلَ علیہ پر مہربان ہونا۔ الحَذَل میلان، جھکاؤ۔

۳۔ الحَذل و الحُذَل و الحُذُل: کپڑے کے دامن کی گولائی۔ الحُزُل کپڑے کے دامن کی گولائی۔ ایک قسم کا سرخ گوند۔

۴۔ حَذلَقَ و تَحَذلَقَ مہارت ظاہر کرنا یا مہارت کا دعوی کرنا۔ کہاجاتا ہے۔ انہ یتحذلق فی کلامہٖ وہ اپنی گفتگو میں ظریف اور ہوشیار بنتا ہے۔ حُذلِقَ الشيُّ: تیز کیا جانا الحِذلِق من الرجال چُپی آدمی۔

۵۔ حَذلَمَ جلدی کرنا۔ العُود کو چھیل کر تیز کرنا۔ ـــ السقاءَ مشک کو بھرنا۔ تَحَذلَمَ جلدی کرنا۔ باادب ہونا۔ الحُذلُوم ہلکا پھلکا۔ سبک رفتار۔

حذم ا۔ حَذَمَ ـِ حَذمًا کو کاٹنا۔ الحَذِم کٹے پرندے کی اڑان۔ الحَذِم و الحِذیَم و المِحذَم من السیوف: کاٹنے والی تلوار۔ قاطع تلوار۔

۲۔ حَذَمَ ـِ حَذمًا و حَذَمانًا فی مشیہ: تیز چلنا۔ دیر کرنا۔ (ضد)۔ الحُذَام سست، کاہل، کہاجاتا ہے: اشتری عبدًا حُذامَ المشی: اس نے ایک سست رفتار غلام خریدا۔

۳۔ حَذَام: یمامہ کی ایک عورت کا نام۔ زرقاء الیمامہ کہلاتی تھی۔ تیز نظر ہونے کی وجہ سے ضرب المثل مشہور ہے۔ ابصرُ من زرقاء الیمامۃ زرقاء الیمامہ سے زیادہ صاحب بصیرت۔

حذا ا۔ حَذَا ـُ حَذوًا و حِذاءً النعلَ: جوتے کو نمونہ پر کاٹنا۔ ـــ النعلَ بالنعل جوتے کو جوتے کے نمونہ پر کاٹنا (ضرب المثل ہے جزیتہ حذو النعل بالنعل: میں نے اسے برابر کا صلہ دیا) ـــ ہٗ و لہٗ و اَحذاہٗ نعلًا: کو جوتا پہنانا، جوتا دینا، یا کے لئے جوتا بنانا۔ اِحتَذَی جوتا پہننا۔ اِستَحذَی ہ: سے جوتا طلب کرنا۔ الحِذاء جمع اَحذِیَة جوتا (ع ا) گھوڑے کا نعل، اونٹ کا موزہ ضرب المثل ہے: کلُّ الحِذاء یحتذی الحافی الوَقِعُ دکھتے ہوئے اور ننگے پاؤں والا ہر قسم کا جوتا پہن لیتا ہے۔ یہ مثل ایسے مصیبت زدہ کیلئے بولی جاتی ہے جو معمولی چیز پر قناعت کرے۔ جیسے کہتے ہیں، بھوکے کو دو روٹی غنیمت ہے۔ الحِذوَة و الحُذوَة گوشت کا ٹکڑا۔ الحَذَّاء جمع حَذَّاؤُون جوتے بنانے والا۔

۲۔ حَذَا ـُ حَذوًا و حِذاءً ہ و ـ حذوہٗ کی پیروی کرنا، نقل کرنا۔ اِحتَذَی مثالَ فلانٍ و علی مثالہٖ کی پیروی کرنا، کی مشابہت پیدا کرنا۔

۳۔ حَذَا و حَاذَی مُحاذاةً و حِذاءً ہٗ کے سامنے ہونا، کے سامنے بیٹھنا۔ تَحاذَیا: یکدوسرے کے سامنے ہونا۔ کہاجاتا ہے۔ بنو فلان یتحاذون الماءَ بنو فلاں پانی آپس میں برابر بانٹتے ہیں۔ الحِذاء و الحِذة و الحَذو و الحُذوَة و الحِذوَة سامنے، مقابل: کہاجاتا ہے۔ داری حِذاءَ دارہٖ: میرا گھر اس کے گھر کے سامنے ہے۔ جلس حِذاءَہٗ و بحذاءِہٖ وہ اس کے مقابل بیٹھا۔ المُحاذی: سامنے۔ مقابل، کہاجاتا ہے۔ ھو مُحاذاتُہ تیرے سامنے یا مقابل ہے۔

۴۔ حَذَا ـُ حَذوًا و حِذاءً الشرابُ لِسانَہٗ شراب کا زبان کو چھیل دینا۔

۵۔ حَذَا ـُ حَذوًا و حِذاءَ التراب فی وجوھھم: کے مونہوں میں خاک ڈالنا۔

٦۔ حَذَا ۔ حَذْوًا وحِذَاءً زیدًا شیئًا: زید کو کچھ دینا۔
الحِذْوَة الحُذْوَة: عطیہ۔ بخشش۔
ن حَذَا ۔ حَذْوًا: حذا حذوَہ: کی نقل کرنا، کے مشابہ ہونا، کی مثال پر عمل کرنا۔ حاذا ہ: کے مقابل ہونا۔ کے سامنے ہونا، کے متوازی ہونا، کا سا ہونا۔
تحاذی: ایک دوسرے کے مقابل ہونا، متوازی ہونا۔
اِحْتَذَی علی / ب: کی نقل کرنا۔ ۔ ہ: کی نقل کرنا۔
۔ علی / ب/ ہ: کو بطور مثال یا نمونہ لینا، اختیار کرنا یا پر بطور مثال یا نمونہ عمل کرنا۔ ۔ ہ: کو بطور جوتے کے پہننا۔ حَذْوَ: کے مقابل، کے سامنے حَذْوَ کَ النعلَ بالنعل: مکمل طور پر ہو بہو یا یکساں انداز میں ٹھیک ٹھیک، چپلی میں مثروں کی طرح۔ حِذَا جمع اَحْذِیَة: جوتا، سینڈل۔ صانع الأَحْذِیَة: موچی، کفش دوز، جوتے بنانے والا۔ حِذاءَ و بحِذاءِ: کے مقابل، کے سامنے۔ حَذَّاء: جوتے بنانے والا، موچی
علی محاذاة یا فی محاذاة: کے ساتھ ساتھ، پہلو بہ پہلو، کے متوازی، احتذاء: نقل کرنا، مُحَاذٍ: مقابل، سامنے۔

حذی: ا۔ حَذَی ۔ حَذْیًا الخَلُّ لِسانَهُ: سرکہ کا زبان کو چھیلنا۔
٢۔ حذی ۔ حَذْیًا یَدَهُ: کا ہاتھ کاٹنا۔ ہ بلسانہ: کی غیبت کرنا، کو گالیاں دینا۔ المِحْذاء: بہت عیب جوئی یا غیبت کرنے والا۔
٣۔ أَحْذَی اِحْذاءً ہ طعنةً: کو نیزہ مارنا۔
٤۔ اَحْذَی اِحْذاءً ہ: کو مال غنیمت کا حصہ دینا۔
الحُذیا و الحُذایَة و الحَذِیَّة: مال غنیمت کا حصہ
الحُذَیَّا: خوشخبری سنانے والے کو دیا جانے والا ہدیہ، مال غنیمت کا حصہ۔

حرّ: ا۔ حَرَّ ۔ حَرارًا العبدُ: غلام کا آزاد ہونا۔ ۔ حَرارًا و حُرِّیَّةً: آزاد اور شریف اصل والا ہونا۔
حَرَّرَ العبدَ: غلام کو آزاد کرنا۔ الولد او الشیءَ: لڑکے کو یا چیز کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خدمت کے لئے وقف کرنا، بعض کے نزدیک لڑکے کو صرف اللہ کی خدمت کے لئے آزاد کرنا اور اس سے کوئی اور کام نہ لینا معنی ہے۔ تَحَرَّرَ العبدُ: غلام کا آزاد ہونا۔
الحُرّ جمع اَحْرار و حِرار: آزاد، شریف۔ ۔ من کل شیء: ہر شے کا عمدہ حصہ کہا جاتا ہے۔ فرسٌ حُرٌّ: اصیل گھوڑا۔ طینٌ حُرٌّ: مٹی جس میں ریت نہ ملی ہو۔ حُرُّ الارض: زمین کا بہترین حصہ۔ حُرُّ الوجه: رخسارہ کہا جاتا ہے۔ لطمه علی حُرِّ وجهه: اس نے اس کے گال پر طمانچہ مارا۔ الحُرَّة جمع

حرائر و حُرّات: حرّ کا مونث۔ آزاد عورت شریف عورت ارضٌ حُرَّة (ط ا): زمین جس کی مٹی میں ریت نہ ہو رملةٌ حُرَّة: وہ ریت جس میں گارا نہ ہو۔ الحُرِّیَة و الحَرُورَة و الحَرُورِیَّة (ان آخری دو لفظوں میں ح مضموم بھی آتی ہے) آزادی، خالص ہونا۔ حُرِّیَّةُ القوم: قوم کے شریف لوگ۔ کہا جاتا ہے: هو من حُرِّیَّة قومه: وہ اشراف قوم سے ہے۔
٢۔ حَرَّ ۔ حَرًّا و حَرَّةً و حُرُورًا و حَرارَةً: گرم ہونا۔ ۔ الماءَ: پانی گرم کرنا۔ اَحَرَّ النهارُ: دن کا گرم ہونا۔ اِسْتَحَرَّ القتالُ: لڑائی کا تیز ہونا، شدت اختیار کرنا۔ الحَرّ جمع حُرُور و اَحارِر (قیاس کے خلاف) گرمی۔ الحَرَّة جمع حَرّات و حِرار، و أَحَرُّون و حَرُّون (ط ا): سیاہ بوسیدہ پتھروں والی زمین۔ الحجرُ الحَرِّی: سیاہ بوسیدہ پتھروں والی زمین سے منسوب پتھر۔ الحجر الحرّانی بھی کہلاتا ہے۔ اس سے چکیاں بنائی جاتی ہیں۔ الحارّ: گرم۔ الحَرُور: گرم ہوا، سورج کی گرمی، آگ۔ الحَرِیر و المَحْرُور: غصہ کی گرمی والا۔ الحَرارَة: گرمی۔ الحَرِیرَة: غصہ کی گرمی والی۔ المَحرُور: اپنے اندر گرمی رکھنے والا۔
٣۔ حَرَّ ۔ حَرَّةً: پیاسا ہونا۔ اَحَرَّ صدرَهُ: کو پیاسا کرنا، پیاس لگانا۔ الحِرَّة: پیاس۔ کہتے ہیں: رماه اللّهُ بالحِرَّة تحت القِرَّة: اللہ تعالیٰ اس کو موسم سرما میں پیاس میں مبتلا کرے۔ الحَرّان مونث حَرَّی جمع حِرار و حَرارَی: سخت پیاسا۔
٤۔ حَرَّ ۔ حَرًّا الارضَ: زمین کو برابر کرنا، ہموار کرنا۔ حَرَّرَ الکتابَ: کتاب کو خوبصورت اور درست لکھنا۔ ۔ الوزنَ: وزن ٹھیک کرنا۔
٥۔ حَرَّرَ المعنی: معنی کو حشو و زوائد سے پاک کرنا۔ الحُرِّیَّة: خلوص۔
٦۔ الحُرّ (ح): شکرا، باز، کبوتر کا بچہ۔ حُرُّ الدار: گھر کا درمیان، بیچ۔ ساقُ حُرٍّ (ح): زقری۔ عینُ حُرٍّ (ح): ایک پرندہ۔ احرار البقول: خام کھائی جانے والی سبزیاں، جیسے سلاد۔ الحارّ من الاعمال: دشوار یا مشقت والا کام۔ الحَرَّة: درد ناک عذاب، پھنسی، بہت تاریکی۔ الحریر: ریشم، ریشم کا کپڑا یا لباس۔ الحَرِیرة: ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا۔ (ط ا) دودھ گھی اور آٹے سے تیار کیا ہوا کھانا۔

الحَرِیرِیّ: ریشم بنانے والا، ریشم فروش۔
☆ حَرَّرَ ہ: کو صاف کرنا، واضح کرنا، ٹھیک بنانا یا وضع کرنا، کو صحیح طور پر لفظوں میں ادا کرنا، کی ٹھیک تعریف کرنا، کا صحیح محل یا مقام جان لینا، (کتاب پر) نظر ثانی کرنا (کتاب رسالہ) مدون کرنا، کی ایڈیٹری کرنا، کی ادارت کے فرائض سر انجام دینا)، کتاب رسالہ اشاعت کے لئے تیار کرنا، کتاب کی تدوین کرنا، کتاب رسالہ کو درست کر کے شائع کرنا۔ ۔ ہ: کو لکھنا، تحریر کرنا، تصنیف کرنا، تالیف کرنا، ترتیب دینا، جمع کرنا، مرتب کرنا۔ حُرّ جمع احرار (مذکر)، حرائر (مونث): شریف آزاد پیدا ہونے والا، اصلی، خالص، کھرا، بے میل (جیسے لعل جواہر وغیرہ) بے ملاوٹ، آزاد، آزادی سے زندگی بسر کرنے والا، جسے حقوق شہریت حاصل ہوں، جسے روکا نہ گیا ہو، حریت پسند (جمع احرار)، آزاد خیال (جمع احرار)۔
۔ علی: کے بارے میں صاف دل، راستباز، صاف گو، صاف باطن، بے لاگ، مخلص، بے تعصب۔ ۔ دستیاب دولت جس کی سرمایہ کاری نہ کی گئی ہو۔
الاحتیاطی الحرّ: آزاد غیر زیر بار اور محفوظ سرمایہ۔
من حرّ مالِهِ: اپنی نقدی کے ساتھ، اپنے ہاتھ میں موجود وسائل سے۔ حَرَّة جمع حَرّات: پتھریلا علاقہ، آتش فشانی سرزمین، لاوے کا علاقہ۔ حُرِّیَّةُ العباده: عبادت کی آزادی۔ حریة الفکر: سوچ کی آزادی، آزادی فکر۔ حریة النشر (او الصحافة): پریس کی آزادی۔ حریرٌ صَخرِیٌّ: از بستس، از بسٹاس، ریشہ دار معدنی مادہ asbestos۔
حریر صناعِیّ: نقلی یا مصنوعی ریشم (rayon)۔
حَرِیرِیّ: ریشمی، ریشم کا، ریشم کے متعلق۔
حرائِرِیّ: ریشمی، ریشم کا، ریشم کا کپڑا بنانے والا۔
حَرّار: ریشمی کپڑا بنانے والا۔ حَرارَة: گرمی، گرمائی، بخار کی حرارت، بخار، درجہ حرارت، ٹمپریچر (temperature)، شدت کی گرمی، (احساس، جذبہ کا) جوش، ولولہ، تپش، شوق، طیش، سرگرمی، گہری دلچسپی، شدت، سختی، زور (کمال کا) جلنا، جلن۔
حُرَیرَة جمع حُرَیرات: حرارت کی اکائی، حرارہ (غذا سے حاصل ہونے والی) توانائی کی اکائی، (calory, caloric)۔ حَرارِیّ: حرارتی، حرارت کا، حرارت کی اکائی کا، توانائی کی اکائی کا۔ وحدة حراریة: حرارت کی اکائی، حرارہ، (غذا سے حاصل ہونے والی) توانائی کی اکائی۔ حراریه جمع حراریات: بمعنی وحدة حراریة حَرّان مونث حَرَّی جمع حِرار

و حَـــرَارَیٰ: پیاسا، پرجوش، تپتا ہوا، پرولولہ، گرم (مجازاً)۔ زَفْـرَـۃ حَـرَّی: گرم آہ، پرولولہ آہ، دموعٌ حَرَّی: گرم گرم آنسو۔ اَحَرّ: زیادہ گرم، زیادہ پرتپاک۔ علی احرّ من الجَمْر: خلجان میں، مخمصے میں، انتہائی تشویش کے عالم میں، زبردست جوش میں۔ مِحَرّ: گرم کرنے کا نظام، گرم کرنے کی تنصیب۔ تـحـریـر: آزادی، مخلصی، رہائی، خلاصی، رہائی، چھٹکارا، مکتی، نجات، ریکارڈ کرنا، قلمبند کرنا، ضبط تحریر میں لانا، محفوظ کر لینا، لکھنا، اشاعت کے لئے ترتیب دینا، درست کر کے شائع کرنا، تدوین، ترتیب، تالیف، ادارت (اخبار وغیرہ کی) جمع تحریرات و تحاریر: تحریر کا ٹکڑا، دستاویز، انتخاب، خلاصہ، ریکارڈ۔ رئیس التحریر: ایڈیٹر انچیف۔ ادارۃ التحریر: ایڈیٹروں کی مجلس، ادارتی عملہ۔ تَحْرِیْرِی: آزادی کا، چھٹکارے کا، نجات کا، مخلصی کا، حریت پسندانہ، ضبط تحریر میں لایا ہوا، تحریری، لکھا ہوا، بصورت تحریر۔ حارّ: گرم، قدرے گرم، پرجوش، پرشوق، جلتا ہوا، سرگرم، دہکتا، دمکتا، تیز، تند، ولولہ انگیز، تندخو۔ مُحَرِّر جمع مُحَرِّرُون: آزاد کرنے والا، لکھنے والا، کلرک، (اخبار رسالہ وغیرہ کا) ایڈیٹر، مدیر۔ مُحَرَّر: اللہ تعالیٰ کے لئے وقف شدہ، قلمبند کیا ہوا، ضبط تحریر میں لایا ہوا، لکھا ہوا، فہرست میں مندرج، نوٹ کیا ہوا جمع مُحَرَّرات: اندراجات، ریزرولیشنز، مُتَحَرِّر: آزاد، آزادی کا حامی۔

حرب: ۱۔ حَرَبَ ـ حَرْبًا الرجلَ: کا سب کچھ لوٹ لینا یا چھین لینا۔ صفت مفعولی۔ حَرِیب جمع حَرْبی و حُرَباء و مُحْرُوب: حُرِبَ الرجلُ مالَه: کا مال چھینا جانا۔ حَارَبَ حِراباً و مُحَارَبَۃً ہ: سے لڑائی کرنا۔ أَحْـرَبَ فلانًـا: کی دشمن کا مال لوٹنے کے لئے رہنمائی کرنا۔ ـ الحربَ: لڑائی کو بھڑکانا۔ تَـحَـارَبَ و إِحْتَـرَبَ القومُ: لڑائی کی آگ بھڑکانا۔ الحَرْب جمع حُرُوب: جنگ، لڑائی۔ آپ کہتے ہیں: وقعت بینهم حربٌ: ان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ یہ کلمہ مؤنث ہے اور کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تصغیر حُرَیب ہے۔ ــ الصاعقۃُ یا الحرب الخاطفۃ: جلد فتح کے لئے فوج کی طرف سے اجتماعی جنگ۔ رجلٌ حَـرْبٌ: شجاع، جنگجو آدمی۔ کہا جاتا ہے: انا حربٌ لمن یحاربنی: جو مجھ سے لڑے میں اس کا دشمن ہوں۔ دارُ الحرب: دشمنوں کا ملک، وہاں کے رہنے والے حربیون کہلاتے ہیں۔ الحَرَب: ہلاکت، تباہی، خرابی۔ الحَـرْبَۃ جمع حِراب: نیزہ، برچھی، برچھا، گھاؤ۔ الـحِـرْبَۃ: جنگ کی ہیئت، کہا جاتا ہے: وقعت بینهم حربۃ شدیدۃ: ان کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی۔ الحَرَّاب: نیزہ بردار، نیزہ بنانے والا۔ الحِرْباء: زرہ کی میخ۔ المِحْرَب و المِحْراب جمع محَارِیب: جنگجو، لڑاکا، بہادر۔

۲۔ حَـرِبَ ـ حَـرَبًـا: سخت غضبناک ہونا، صفت: حَرِب۔ حَرَّبَ ہ: کو غضبناک کرنا۔ إِحْرَنْبَی إِحْرِنْباءً: شرارت وغصہ کے لئے، تیار و آمادہ ہونا۔ الحَرِب جمع حَرْبَی: سخت غضبناک۔

۳۔ حَـرِبَ الرجلُ: ہلاکت کو بلانا، ہائے افسوس ہائے افسوس کہنا (وَاحَـرْبَـاہ)۔ وَاحَـرْبَا: اس کلمہ سے مرنے والے پر روتے ہیں، افسوس کرنے کے لیے مستعمل ہے: افسوس، ہائے افسوس۔ (واحرباہ میں ہ وقف کے لئے ہے)۔

۴۔ حَرَّبَ السنانَ: نیزے کے پھل کو تیز کرنا۔

۵۔ حرِبَ ـ حَرَبًا: پیاسا ہونا۔

۶۔ اَحْرَبَ النخلُ: کھجور کے درخت کا شگوفہ نکالنا۔

۷۔ اِحْـرَنْبَی احرنباءً: چت لیٹ کر اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھانا۔

۸۔ اِحْـرَنْبَیَ احرنباءً المکانُ: جگہ کا وسیع وکشادہ ہونا۔

۹۔ الحَرْبَۃ جمع حَـرَبات و حَرْبات: دینی فساد، جمعہ کا دن۔ الـمَحْرَب و المِحْرَاب جمع مَحَارِیب: صدرِ مجلس، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ (کہا جاتا ہے: انه یکره المحاریب: وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ صدر مجلس میں بیٹھے اور لوگوں سے ممتاز ہو) شیر کی کچھار۔ المِحْرَاب: گھر کا شروع کا حصہ، اچھی جگہ، قبلہ۔ مِحرابُ المسجد: امام کی جگہ۔ الحِرْباء: پشت کا گوشت۔ ــ و الحِرباءَۃ جمع حَرَابِیّ (ح): گرگٹ، تلون مزاجی کے لئے بطور مثل مشہور ہے، عام لوگ اسے حِربایَۃ و بِرْبُختی (فارسی) کہتے ہیں۔

۱۰۔ الحِرْبِش و الحِرِبّش (ح): اژدہا۔

○ حَرِبَ ـ حَرَبًا: ناراض ہونا، برہم ہونا، غضبناک ہونا۔ حَارَبَ ہ: سے لڑنا، جنگ کرنا، کے خلاف یا سے لڑنا، لڑائی کرنا۔ تَحَارَبَ: آپس میں لڑنا، ایک دوسرے سے لڑنا، جنگ میں مشغول ہونا، احترب: بمعنی تحارب: حرب (مونث) جمع حُرُوب: جنگ، لڑائی۔ ــ علی یال: کا دشمن یا کے دشمن۔ حربٌ اهلیۃ: خانہ جنگی۔ حرب صحافیۃ: صحافیانہ یا پریس منافرت۔ الحروب الصلیبیۃ: صلیبی جنگیں۔ الحرب العُظمی و الحرب العالمیّۃ و الحرب العامۃ: پہلی جنگ عظیم۔ کشفت الحربُ عن ساقها اور قامت الحرب علی ساق: شدید جنگ شروع ہو گئی یا یکا یک لگ گئی۔ حَرْبِیّ: جنگجو، جنگجوانہ، جھگڑالو، محارب، شریک جنگ، جنگی، فوجی، جمع حربیون: جنگجو، نبرد آزما، (فوجی) سپاہی۔ البَولیسُ الحربی: ملٹری پولیس۔ حَـرْبَۃ: نیزہ، برچھا، برچھی، بلم، نیزے کی انی، انی، سنگین، تلوار۔ مِحـراب جمع مَحاریب: محراب مسجد، نماز کا طاق۔ احتراب: گھمسان کی لڑائی، باہمی کشمکش۔ مُحَـارَبَۃ: جدوجہد، لڑائی، جنگ، جنگ و جدل، لڑائی بھڑائی، محاربہ۔ مُحَارِب: جنگ کرنے والا، لڑنے والا، جنگجو، جنگی سپاہی، فوج کا معمولی افسر۔ المتحاربون: جنگ کے فریق، شرکاء جنگ۔

○ حَرْبُوشَۃ جمع حَرَابِش: گولی۔ حَبّ (دوا کی) (مٹھائی کی) گولی، (دوا کی) گولی۔

حرت: حَرَتَ ـ حَرْتاً الشیءَ: کو سخت ملنا۔ حَرِتَ ـ حَرَتًا الرجلُ: بدخلق ہونا۔ الحَرْت: جانور کے چبانے کی آواز۔ الحَرِیت (ح): ایک قسم کی مچھلی۔

حرث: ۱۔ حَرَثَ ـ حَرْثًا: کھیتی باڑی کرنا، صفت: حارِث جمع حُرَّاث و حَرَّاث۔ ــ الارضَ: زمین میں ہل چلانا، کھیتی بونا۔ الـحَـرْث (ر): کھیتی۔ الحارِث جمع حُرَّاث (فا)۔ الحِراثۃ: کھیتی، کاشتکاری۔ المِحْرث جمع مَحَارِث و المِحراث جمع مَحَارِیث (ر): ہل۔

۲۔ حَرَثَ ـ حَرْثًا المالَ: مال کمانا، جمع کرنا۔ اِحْتَرَثَ المالَ: مال کمانا۔ الحارِث و ابو الحارث: شیر کی کنیت۔ الحَرائِث واحد حَرِیثَۃ: کمائیاں۔

۳۔ حَرَثَ ـ حَرْثًا و أَحْرَثَ و إِحْتَرَثَ الدابۃَ: جانور کو تھکانا، لاغر و دبلا کرنا۔ صفت مفعولی: حرِیثۃ ج حُرائِث۔

۴۔ حَرَثَ ـ حَرْثًا الخبزَ: روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

۵۔ حَرَثَ ـ حَرْثًا الشیءَ: کا اچھی طرح مطالعہ کرنا۔

۶۔ حَرَثَ ـ الأمرَ: کسی امر کو یاد کر کے بھڑک جانا۔

- النارَ: آگ کو کریدنا۔ المِحرث جمع مَحَارِث و المِحرَاث جمع مَحَارِیث: آگ ہلانے کی سیخ، کریلنی۔

☆ حَرَثَ - حَرثًا ہ: زمین میں ہل چلانا، زمین جوتنا، زمین میں بونا، زراعت کرنا، کاشت کرنا، زمین ٹھیک کرنا، سدھارنا، سنوارنا، زمین تیار کرنا، کھیتی باڑی کرنا۔ حَرث: کھیتی باڑی کرنا، زمین جوتنا، زمین میں ہل چلانا، کاشتکاری کرنا، کھیتی، کھیتی باڑی، کھیتی کی زمین، زراعت، کاشتکاری، قابل زراعت یا قابل کاشت زمین، کاشت، مزروعہ زمین، شجرزار، باغ، پودے، درخت۔ حَرثَة: قابل کاشت یا قابل زراعت زمین، کاشت، زراعت، مزروعہ زمین۔ حِراثَة: کھیتی باڑی، کاشتکاری، زمینداری، کشاد زری، زراعت۔ حَرّاث: ہل چلانے والا، کسان۔ حارِث جمع حُرّاث: ہل چلانے والا۔ ابو الحارث: شیر۔

حرج: ا۔ حَرِجَ - حَرَجًا الرجلُ: مجرم ہونا۔ أَحْرَجَ ہ: کو گناہ میں مبتلا کرنا۔ تَحَرَّجَ: گناہ سے بچنا۔ الحَرَج: گناہ۔ کہا جاتا ہے: لا حَرَجَ علیك: تمہارا کوئی قصور نہیں یا تم پر کوئی اعتراض نہیں۔ حَدِّث عن البحر ولا حرج: سمندری حالات بیان کرو۔ مبالغہ وغیرہ کے بارے میں تم پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ الحِرْج جمع أَحْرَاج و حِراج: گناہ۔

۲۔ حَرِجَ - حَرَجًا الشیءُ: تنگ ہونا۔ ـــت العینُ: آنکھ کے دھنس جانے کی وجہ سے چندھیانا۔ ـــ الیه: تنگ ہو کر کی پناہ لینا۔ ـــ الغبارُ: گرد و غبار کا تنگ مقام میں چکر کھانا۔ حَرَّجَ ہ: کو تنگ کرنا۔ ـــ علیه: پر دباؤ ڈالنا، کسی سے کہنا کہ تو تنگی میں ہے۔ أَحْرَجَ ہ: کو تنگی میں ڈالنا، کو تنگ جگہ کے لئے مجبور کرنا۔ ـــ فلانًا الیه: کو پر مضطر کرنا۔ الحَرَج: گھنے درختوں والی تنگ جگہ۔ الحَرِج تنگ، گھنے درختوں والی تنگ جگہ۔ الحَرِیج: تنگ۔ المُحَرِّج: تنگ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: حلف بالمُحَرِّجات: اس نے تنگی میں مبتلا کرنے والی قسمیں کھائیں۔

۳۔ حَرِجَ - حَرَجًا علیه الشیءُ: پر کسی چیز کا حرام ہونا۔ أَحْرَجَ علیه الامرَ: پر کوئی کام حرام کرنا، ناجائز ٹھہرانا۔ الحَرج: حرمت۔

۴۔ حَرَجَ - حَرْجًا انیابَهٗ: غصہ سے دانت پیسنا۔

۵۔ حَرَّجَتِ النصاعة فی ید الدلّال: مال یا سامان تجارت کی قیمت کا دلال کے پاس انتہائی بڑھ جانا۔ الحَرَاج: دلال کے پاس مال یا سامان تجارت کی قیمت کا مزید بڑھنے سے رک جانا۔ سوق الحَرَاج: نیلامی کا بازار، بازار نیلامی۔

۶۔ الحَرَج: مردہ لیجانے کا تختہ۔ الحَرِج: لڑائی میں ثابت قدم رہنے والا، کسی معاملہ میں پیش قدمی کرنے سے خوف کھانے والا۔ الحِرج جمع أَحْرَاج و حِرَاج: بکریوں کا ریوڑ، شکار میں کتے کا حصہ، درندوں کے شکار کے لئے رسیوں کا پھندا، کوڑی۔ الحَرَجة جمع حَرَج و حَرَجات: بکریوں یا اونٹوں کا ریوڑ۔ ـــ ج حِراج و أَحْرَاج (ن): جنگل۔ المِحْرَاج من اللیالی: بہت ٹھنڈی رات۔

۷۔ حَرْجَلَ حَرْجَلَةً: لمبا ہونا، دائیں بائیں دوڑنا۔ الحُرْجُل و الحُراجِل: لمبا۔ الحَرْجَل و الحَرْجَلَة: گھوڑوں کا گلہ۔ کہا جاتا ہے: جاءوا حَرَاجِلَةً: وہ اپنے گھوڑوں پر آئے۔ الحَرْجَلة: لنگڑا پن۔

۸۔ حَرْجَمَ الإبلَ: اونٹوں کو ایک دوسرے پر گرتے ہوئے جمع کرنا۔ اِحْرَنْجَمَ القومُ او الابلُ: لوگوں یا اونٹوں کا اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا۔ ـــ عن الامر: کسی امر کا ارادہ کر کے اس سے ہٹ جانا۔

○ حَرَجَ - حَرَجًا: تنگ ہونا، مضبوط ہونا، مشکل میں یا مصیبت میں مبتلا ہونا، مشکلات میں گھر جانا، محدود ہونا، زچ ہونا، بڑی مشکل میں ہونا، ذہنی تکلیف یا کوفت میں ہونا۔ ـــ علی: پر حرام ہونا۔ حَرَّجَ ہ: کو تنگ کرنا، مضبوط کرنا، کسنا، مشکل میں ڈالنا، کو پیچیدہ بنانا، الجھانا، میں الجھنیں پیدا کرنا، کو مشکل بنانا۔ ـــ ہ علی: کو پر حرام کرنا، ناجائز ٹھہرانا۔ ـــ فی: پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا۔ أَحْرَجَ ہ: کو تنگ کرنا، محدود کرنا، میں روڑا اٹکانا، رکاوٹ ڈالنا، کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو حد کے اندر رکھنا، پر پابندی لگانا، کو پیچیدہ بنانا، مشکل بنانا، بگاڑنا، سنگین بنانا، خطرہ میں ڈالنا۔ ـــ ہ: کو پریشان کرنا، مشکل میں ڈالنا۔ ـــ الی: کو پر مجبور کرنا۔ ـــ ہ علی: کو پر حرام کرنا۔ تَحَرَّجَ: گناہ اور برے کاموں سے پرہیز کرنا۔ ـــ من: سے باز رہنا، احتراز کرنا، اجتناب کرنا، سے پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، بچنا، کنی کترانا۔ ـــ زچ ہونا، دیوار سے لگا دیا جانا، مظلوم ہونا یا ہو جانا، مصیبت میں مبتلا ہونا، سخت ذہنی اذیت میں ہونا، نازک یا تشویشناک ہو جانا، پیچیدہ یا مشکل ہو جانا (صورت حال کا)، سنگین ہو جانا (کی حیثیت کا) خطرہ میں پڑ جانا۔ تَحَرَّجَ صدرُهٗ من (ب): سے افسردگی محسوس کرنا، پر پریشان ہونا۔ تَحَرَّجَ به الناسُ: اس بات نے لوگوں کے لئے معاملات یا حالات کو مشکل بنا دیا۔ حَرَج: تنگی، سختی، گنجانی، روک، آڑ، قید و بند، سمٹاؤ، کھچاوٹ، قبض، اینٹھن، پابندی، قید، مصیبت، جبر، تعدی، ظلم و ستم، دکھ، تکلیف، تنگ دستی، احتیاج، دشواری، انتہائی جسمانی یا روحانی تکلیف یا اذیت، مشکل، پر اندیشہ صورت حال، ممانعت، امتناع، حرام، ممنوع چیز، گناہ۔ لا حَرَجَ: کوئی اعتراض نہیں۔ لا حَرَجَ علیك: تمہارے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، تمہیں آزادی حاصل ہے۔ حَرَج واحد حَرَجة جمع حرجات و حِراج و أَحْرَاج: درختوں کا جھنڈ، گھنا جنگل، درختوں سے بھرا ہوا علاقہ، عمارتی لکڑی کے درختوں سے بھرا ہوا علاقہ۔ حَرِج: تنگ، کسا ہوا، پابند، مظلوم، سخت دباؤ میں، دق، پریشان، سنگین (صورت حال، حالت)، أَحْرَج: زیادہ تنگ، زیادہ قریب، زیادہ کسا ہوا، زیادہ سنگین۔ حَرَاج نیلام۔ حَرَاجَة: سنگینی، شدت مشکل، پیچیدگی (صورت حال کی)۔ تَحْرِیج: جنگل بنانا، جنگل لگانے کا عمل۔ تَحَرُّج: پابندی، روک، ممانعت، ضبط، احتیاط، بے تعلقی، بے ربطی، بے وابستگی، بزدلی، بے حد شرمندہ پن، لحاظ، جھجک، بے اعتمادی، بے حوصلگی، کم ہمتی، بودا پن، ڈرپوکی، سنگین پیچیدگی، بھاری پن، (صورت حال کی) دشواری۔ مُحَرِّجات الأَیمان: واجب، ذمہ داری لینے والی باضابطہ قسمیں۔ مُحْرِج: پریشان کن، کام بگاڑ دینے والا۔ مُتَحَرِّجُ الصدر: پریشان، ہنگامہ خیز، ہلچل پیدا کرنے والا، تشویش انگیز، سخت اذیت میں، مظلوم، دبایا ہوا۔

حرد: ا۔ حَرِدَ - حَرَدًا و حَرْدًا علیه: پر غضبناک ہونا۔ صفت حارِد و حَرِد و حَرْدان۔

۲۔ حَرِدَ - حَرَدًا و حَرْدًا الوترُ: کمان کے تاروں میں بعض کا بعض سے لمبا ہونا۔ صفت: حَرْد۔

۳۔ حَرَدَ - حَرْدًا ہ: کا ارادہ کرنا، قصد کرنا۔

۴۔ حَرَدَ - حَرْدًا ہ: کو منع کرنا، روکنا۔ حَرَّدَہ: کو منع کرنا، روکنا۔

۵۔ حَرَدَ - حَرْدًا الخشبَ: لکڑی میں سوراخ کرنا۔

۶۔ حَرَدَ - حُرُودًا: اپنی قوم سے جدا ہو کر اکیلا اور تنہا ہونا۔ صفت: حَرْد و حَرِید جمع حِراد و حَرِیدون جمع حُرَداء۔ حَرَّدَ الشعرُ: بال کا تنہا اگنا۔ أَحْرَدَہ: کو علیحدہ کرنا۔ اِنْحَرَدَ: اکیلا ہونا، تنہا

ہونا۔

۷۔ حَرَّدَ الشیءَ: کو ٹیڑھا کرنا۔

۸۔ حَرَّدَ الحبلَ: رسی بٹنا۔

۹۔ حَرَّدَ: جھونپڑی میں پناہ لینا۔ المُحَرَّد (ا ع): چوکیدار کا جھونپڑا۔

۱۰۔ حَارَدَتِ الناقةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا، صفت حَرُود و مُحَارِد۔ ۔ت السنة: سال کا کم بارش والا ہونا۔ ۔ الرجلُ: پہلے دینا اور پھر دینا بند کر دینا۔ الحَرِید: بہت میں سے تھوڑی چیز۔ الأحْرَد جمع حُرْد: بخیل، کمینہ۔

۱۱۔ اَحْرَدَ فی المشی: تیز چلنا۔ انحرد النجم: ستارہ ٹوٹنا۔

۱۲۔ تَحَرَّدَ الادیمُ: ادھوڑی کے بال گرنا۔

۱۳۔ الحَرَد (مص): اونٹ کی اگلی ٹانگ کے پٹھے کا ڈھیلا پن۔ الأحْرَد جمع حُرْد: حَرَد کی بیماری کا مریض، زرہ کے بوجھ کی وجہ سے اچھی طرح نہ چل سکنے والا۔ الحَرِید: دُور، خشک کی ہوئی مچھلی۔

☆ حَرِدَ ۔ حَرَدًا علی: پر یا سے پریشان ہونا، ناراض ہونا، غیر مطمئن ہونا، برہم ہونا، غضبناک ہونا۔ حارِد و حَرِد و حَرْدان: پریشان غیر مطمئن، ناراض، برہم، غضبناک۔

حرذ: الحِرذَوْن جمع حَرَاذِین (ح): گرگٹ کے مشابہ ایک جانور، نر سوسمار۔

☆ حِرذَوْن جمع حَرَاذِین: چھپکلی، چلپاسہ۔

حرز ۱۔ حَرَزَ ۔ حَرْزًا المال: کی حفاظت کرنا، کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ حَرَّزَ الشیءَ: کو محفوظ رکھنے میں حد سے تجاوز کرنا۔ اَحْرَزَ الشیءَ: کو جمع کرنا، محفوظ رکھنا، کا ذخیرہ رکھنا۔ الحَرَز جمع اَحْرَاز: ہر وہ چیز جو محفوظ کی گئی ہو۔ الحِرْز: ہر چیز جو اشیاء کی حفاظت میں کام آئے جیسے صندوق وغیرہ۔ ہر وہ چیز جو ضائع اور تلف ہونے سے بچائے۔ حصہ، کہا جاتا ہے: اخذ حِرْزَہٗ اس نے اپنا حصہ لیا۔ الحَرِیز جمع کردہ شے۔ کہا جاتا ہے۔ لاحَرِیزَ من بیع اگر تم نے میری خواہش کے مطابق قیمت دے دی تو میں فروخت کرنے سے انکار نہیں کروں گا۔ الحَرِیزَ جمع حَرَائِز من الابل: وہ اونٹ جسے عمدگی کی وجہ سے فروخت نہ کیا جائے۔

۲۔ حَرِزَ ۔ حَرَزًا: پرہیزگار ہونا۔ حَرُزَ ۔ حَرَازَةً و حَرَازًا المکانُ: جگہ کا محفوظ ہونا۔ حَرَّزَ و اَحْرَزَ المکانُ الرجلَ: جگہ کا کسی کے لیے جائے پناہ بننا۔ تَحَرَّزَ و احْتَرَزَ منه: سے بچنا۔ اِسْتَحْرَزَ: محفوظ جگہ میں آ جانا۔ الحِرْز: محفوظ جگہ (کہا جاتا ہے: حِرْزٌ و حَرِیزٌ و حَارِزٌ: مُحْصَن حصین منیع (محفوظ جگہ وغیرہ) جیسے کہا جاتا ہے: داهیة دهیاء) (مُعوِّذین کی اصطلاح میں) تعویذ۔ الحِرْز جمع اَحْرَاز

۳۔ الحَرَز جمع اَحْرَاز: اخروٹ جس سے بچے کھیلتے ہیں۔

○ حَرَزَ ۔ حَرْزًا ۵: کو رکھنا، کی حفاظت کرنا، کو بچانا، محفوظ رکھنا، کا خیال رکھنا۔ حَرُزَ ۔ حَرَازَةً: مضبوط ہونا، مضبوطی سے قلعہ بند ہونا، ناقابل تسخیر ہونا۔ اَحْرَزَ ۵: کو رکھنا، محفوظ رکھنا، کو بچائے رکھنا، کی حفاظت کرنا، کو حاصل کرنا، جیتنا۔ احرز نصرًا (انتصارًا): کامیابی حاصل کرنا۔ اَحْرَزَ قَصَبَ السَّبْقِ: بڑی کامیابی حاصل کرنا، جیتنا۔ تَحَرَّزَ ۔ من: میں چوکس، چوکنا یا ہوشیار ہونا، سے بچنے کی کوشش کرنا۔ ۔ محتاط ہونا، احتیاطی تدابیر کرنا، توجہ کرنا۔ حِرز جمع اَحْراز: محفوظ جگہ، جائے پناہ، پناہ گاہ، گوشہ، تنہائی، حفاظت (جمع احراز و حُرُوز) تعویذ۔ حَرِیز: سخت محفوظ، ناقابل رسائی، ناقابل تسخیر۔ اِحراز: حصول۔ اِحْتِراز جمع اِحترازات: احتیاط، چوکنا پن، ہوشیاری، ہوشمندی، دور بینی، قید، جھجک، تحفظ۔ بکل الاحتراز: مکمل تحفظ سے۔ حَارِزة (فیوز، برقی) fuse۔ مُحرِز: حاصل کرنے والا، جیتنے والا۔ ۔ علی: کا حامل، پر قابض۔

حرس ۱۔ حَرَسَ ۔ حَرْسًا ہ: کی حفاظت کرنا، رکھوالی کرنا صفت: حارس جمع حُرّاس و حَرَسَة وَحَرَس و احراس، اَحْرَسَ بالمکان: کسی جگہ کی حفاظت کے لئے مقیم ہونا۔ تَحَرَّسَ و اِحْتَرَسَ منه: کسی سے محفوظ رہنا، بچ کر رہنا۔ الحَرَس بمعنی حُرّاس۔ حَرَسُ الملك واحد حَرَسِیّ شاہی محافظ، باڈی گارڈ، بادشاہ کے اعوان، الحَرَاسَة: حفاظت۔ الحَرِیسَة جمع حرائس بکریوں کا باڑہ۔

۲۔ حَرَسَ ۔ حَرْسًا الشیءَ: کو چرانا، چوری کرنا۔ الحَرِیسَة جمع حَرَائِس: رات کو چوری کی ہوئی بکری، چوری۔

۳۔ حَرِسَ ۔ حَرَسًا: لمبی زندگی پانا۔ الحَرْس جمع اَحْرَاس: زمانہ۔ کہا جاتا ہے۔ مضی علیه حَرْسٌ اس پر ایک زمانہ گذر گیا۔ الأحْرَس: پرانا جس پر ایک زمانہ گذر گیا ہو۔

۴۔ حارِسُ السماء و حارِسُ السِماك (فلك): دو ستارے۔ الحَرَسان: رات، دن۔

○ حَرَسَ ۔ حَرْسًا و حِرَاسَة ۵/۵: کی حفاظت کرنا، پہریداری کرنا، نگہبانی کرنا، کو قابو میں رکھنا، پر تسلط قائم رکھنا، کی نگرانی کرنا، کا انتظام کرنا، کو حاصل کرنا، بچانا، بچائے رکھنا، کے حفاظتی اقدامات کرنا، کو محفوظ رکھنا، کو سنبھال کر رکھنا۔ ۔ علی: کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا۔ احترس من: سے بچنا، چوکس، چوکنا یا ہوشیار ہونا، میں بہت محتاط ہونا، کے خلاف حفاظتی انتظام کرنا۔ حَرَس: پہرے دار، سنتری، حفاظتی دستہ، محافظ دستہ، باڈی گارڈ۔ الحرس السیّار: قومی فوج، ملیشیا۔ حرس الشرف: گارڈ آف آنرز۔ الحرس المَلکی: شاہی محافظ۔ الحرس الملوکی: "بے" کا باڈی گارڈ۔ الحَرَس الوطنی: نیشنل گارڈ، قومی محافظ۔ حِراسة: نگہبانی، پہرے داری، پاسبانی، کنٹرول، تسلط، محافظ کا فریضہ، نگرانی، انتظام، محافظت، سرپرستی، حفاظت۔ . داری کا پروانہ، بدرقہ، راہ کا نگہبان، انتظام، ریاست کا انتظام، کسی کی جائیداد وغیرہ پر اس وقت تک قبضہ کرنا جب تک وہ قرض وغیرہ کی ادائگی نہ کرے۔ حراسة السواحل: بحری پولیس (coast guard)۔ احتراسًا من: کی سے حفاظت کے لئے۔ حارِس جمع حَرَسَة و حُرّاس: چوکنا، چوکس، ہوشیار، چوکیدار، پہرے دار، سنتری، محافظ، نگران، ناظم، منصرم، مہتمم، ناظر، سرپرست، سرپرستانہ۔ حارس التركة: ریاست یا جاگیر کا منتظم۔ حارِسُ الخواتِم: پہریدار۔ حارِسُ المَرْمَی: گول کیپر۔ حارِس قضائی: کسی جائیداد وغیرہ پر اس وقت تک قانونی طور پر قابض جب تک قرض وغیرہ کی ادائگی نہ ہو۔ (دیوالیہ پن یا غیر معین شرح سود کے حصوں میں)۔ ملاك حارس: محافظ فرشتہ۔ حارس اللیل: رات کا پہرے دار۔ مَحْرُوس: محفوظ، حفاظت کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ کیا ہوا۔ شہروں کے ناموں کے بعد لقب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ المَحْرُوسون: بچے، کنبہ، خاندان۔ مُحْتَرِس محتاط، چوکس، چوکنا، ہوشیار۔

حرش ۱۔ حَرَشَ ۔ حَرْشًا و تَحْرَاشًا الضبَّ: سوسمار کا شکار کرنا۔ تَحَرَّشَ الضبَّ و بالضبّ: سوسمار کا شکار کرنا۔ اِحْتَرَشَ الضبَّ: سوسمار کا شکار کرنا۔ ۔ لعیاله: اپنے اہل وعیال کے لئے کمانا۔ الحَرَّاش من الحیّات (ح): سیاہ پرانا سانپ۔

۲۔ حَرَشَ ـ حَرْشًا و تَحْرَاشًا البعیرَ: اونٹ کو اس کی پیٹھ کی رسی سے رگڑنا تاکہ وہ تیز چل سکے۔

۳۔ حَرَشَ ـِ حَرْشًا و تَحْرَاشًا الرجلَ: کو خراش لگانا۔

۴۔ حَرِشَ ـ حَرَشًا: کھردرا ہونا صفت: أَحْرَشُ۔ الحَرِش: کھردرا۔ الحُرْشَة و الحَرَش: کھردرا پن۔ الأَحْرَش جمع حُرْش: کھردرا (کہا جاتا ہے: دینار احرش: نیا کھردرا دینار) کھردری گوہ، سوسمار۔

۵۔ حَرَشَ ـ حَرْشًا الرجلَ: دھوکا دینا۔ حَرَّشَ بین القوم: لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اُکسانا۔ (اسی طرح کتوں وغیرہ کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے کے معنی میں بھی آتا ہے)۔ اِحْتَرَشَ الرجلَ: دھوکا دینا۔ الحَرْش جمع حِراش: دھوکا۔

۶۔ تَحَرَّشَ بہ: کا مقابلہ کرنا، سے تعرض کرنا، متصادم ہونا۔

۷۔ اِحْتَرَشَ الشیءَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ ـــ القومُ: لوگوں کا مجتمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الحَرْش جمع حِراش: جماعت۔

۸۔ الحَرْش جمع حِراش: اثر۔ الحَرِش: جسے نیند نہ آئے یا نہ آتی ہو۔ الحَرِیش جمع حُرُش (ح): کوڑیالہ سانپ۔ ایک دریائی جانور، گینڈا۔ الحَرِیشة (ن): ایک قسم کی نباتات۔ کہا جاتا ہے: اخرجتُ لہ حَرِیشَتِی: جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے نکال کر اسے دے دیا۔

۹۔ الحُرْشُف: سخت زمین۔ الحُرْشُف جمع حَرَاشِف (ع ا): مچھلی کے کھپرے۔ (ح): ٹڈی جس کے ابھی پر نہ نکلے ہوں۔ (ح) چھوٹے پرندے۔ زرہ کی کڑیاں، کمزور اور بوڑھے لوگ (کہا جاتا ہے: لیس ثمَّ غیر حُرْشُف رجال: وہاں سوائے کمزور اور بوڑھے لوگوں کے کوئی نہیں)۔ پیادوں کی جماعت۔ (ن): ایک قسم کی نباتات، ساحل سمندر کے پتھر۔

☆ حَرَشَ ـ حَرْشًا ہ ٗ/ہ: کو کریدنا، چھیلنا، نوچنا، کھرچنا، ناخن مارنا، پنجہ مارنا۔ حَـرَّشَ ہ: کو اُکسانا، ابھارنا، بھڑکانا، ترغیب دینا، ورغلانا، برانگیختہ کرنا، کو طیش میں لانا، غصہ دلانا، مشتعل کرنا۔ ـــ بین: کے درمیان نا اتفاقی کا بیج بونا، ان بن یا جھگڑا کرا دینا، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دینا۔ تَحَرَّشَ ب: سے جھگڑا کرنا، سے دنگا شروع کرنا، کو طیش میں لانا، غصہ دلانا۔ حِرش و حُرُش جمع اَحْرَاش و حُرُوش: جنگل، جھاڑ جنگل۔ حَرِش و اَحْرَش: کھردرا، موٹا جھوٹا، ناہموار، نوکیلا، کنکھیلا۔ حُرُوشَة و حَـرَاشَة: کھردرا پن، کرختگی، سختی، ناہمواری۔ تحـریـش: اکساہٹ، چھیڑنا، چھیڑ، اشتعال یا طیش دلانا، تحریک، ہیجان، ہلچل، اضطراب۔ تَحَرُّش: اشتعال، اصرار، ابرام، خواہ مخواہ دخل، بے جا مداخلت، دخل اندازی، دست اندازی، دخل در معقولات، کسی کام میں ٹانگ اڑانا۔

حَرْشَف جمع حَرَاشِف: مچھلی کے کھپرے۔

حرص: ۱۔ حَرَصَ ـ حَرْصًا الجلدَ: چمڑا چھیلنا۔ ـــ القَصَّارُ الثوبَ: دھوبی کا کپڑے کو کوٹتے یا دھوتے ہوئے پھاڑ دینا۔ حُرِصَ المرعی: چراگاہ کو بالکل چر لیا جانا۔ الحَـرْصَة و الحَـارِصَة و الحَرِیصَة: وہ زخم جو چمڑے کو پھاڑ دے، وہ بادل جو سخت بارش سے زمین کو چھیل ڈالے۔

۲۔ حَرَصَ ـِ و حَرِصَ ـَ حِرْصًا و اِحْتَرَصَ علی الشیءِ: کی حرص کرنا، کا لالچ کرنا، کو بہت چاہنا، صفت: حَـرِیص جمع حُـرَصَاء و حِرَاص و حُرَّاص مؤنث: حَـرِیصَة جمع حِـرَاص و حَرَائِص۔ حَرَّصَ ہ علی الشیءِ: کسی شخص کے کسی چیز کے لالچ کو تقویت دینا، اور اس سے لگاؤ اور بخل کو بڑھانا، کو کا مشتاق بنانا، کو کا حرص و لالچ دلانا۔ تَحَرَّصَ: بتکلف لالچ کرنا۔ الحِرص (مص): لالچ، بخل۔

۳۔ تَحَرَّصَ: وقت کا انتظار کرنا۔ ھو یتحرص غداء ھم و عشاء ھم: وہ ان لوگوں کے صبح و شام کے کھانے کے وقت کی تاک میں رہتا ہے۔

○ حَرَصَ ـِ و حَرِصَ ـَ حِرْصًا علی: کی خواہش کرنا، کو چاہنا، کا لالچ کرنا، کی تمنا کرنا، کو طلب کرنا، کا حاجتمند ہونا، کا اشتیاق رکھنا، کی آرزو رکھنا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا، پر ہمہ تن متوجہ ہونا، پر تلا ہوا ہونا، کے لئے جدوجہد کرنا، سخت کوشش کرنا، کا متمنی ہونا، کی آرزو کرنا۔ حِـرص: لالچ، طمع، دلدادگی، شیفتگی، حرص، خواہش، آرزو، تمنا، جدوجہد، دوڑ دھوپ، سعی و کوشش (صلہ علی کے ساتھ)۔ حِرصًا علی: کی خواہش میں، کی کوشش میں۔ حِرصًا علی الارواح: خطرہ! (ٹریف کے نشانات پر انتباہ کے طور پر لکھا جاتا ہے)۔

حرض: ۱۔ حَرَضَ ـُ حُرُوضًا و حَرِضَ ـَ حَرَضًا و حَـرُضَ ـُ حَـرَاضَةً: بری بیماری میں مبتلا ہو کر لاغر و ناتواں ہونا صفت: حَـارِض و حَـرِض و حَارِض و حَارِضَة: کہا جاتا ہے: ناقةٌ حَرْضٌ: لاغر و ناتواں اونٹنی۔ حَرَضَ ـ حَرْضًا نفسَہ: اپنی جان کو خراب کرنا۔ حَرَّضَ الشیءَ: کو خراب کرنا، بگاڑنا۔ ـــ فلانًا: کی بدنی یا عقلی خرابی کو دور کرنا۔ أَحْرَضَہ الحزنُ او المرضُ: غم یا بیماری کا بدن کو گھلا دینا۔ الحَرَض (مص): بدن، مذہب یا عقل کی خرابی۔ الحِرْضَة جمع حِرَض: رذیل ناقص الحال آدمی جس کو کوئی پاس نہ آنے دے۔ المُحْرَض: جسے غم نے گھلا دیا ہو۔

۲۔ حَـرِضَ ـ حَـرَضًا: گر پڑنا اور اٹھ نہ سکنا۔ أَحْرَضَ ہ: کو گرانا۔ المُحْرَض و الحَرِیض: گرا ہوا جو اٹھ نہ سکے۔

۳۔ حَرَّضَ ہ علی الأمر: کو کسی بات پر اکسانا، برانگیختہ کرنا۔ أَحْرَضَ ہ علی الشیءِ: کو کی ترغیب دینا۔ تحارضوا علی العمل: ایک دوسرے کو کام پر برانگیختہ کرنا۔

۴۔ حَارَضَ علی العمل: پر ثابت قدم رہنا۔

۵۔ حَارَضَ فلانًا: تیر کی جھڑ سے ایک دوسرے کو مارنا۔

۶۔ الحُرُض و الحُرْض: اشنان جس سے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ حَـرْضُ الثوب: کپڑے کا حاشیہ۔

☆ حَرَّضَ ہ علی: کو پر اکسانا، برانگیختہ کرنا، مہمیز کرنا، ابھارنا، کو کی ترغیب دینا، کی میں اعانت کرنا، کو پر جوش میں لانا، کو پر متحرک کرنا۔ تحـریـض: اکساہٹ، ترغیب، اشتعال انگیزی، اشتعال انگیز بات۔ ـــ علی: پر ترغیب، انگیخت، تحریک (ارتکاب جرم میں) اعانت، مدد، پر ہلچل، اضطراب، پریشانی، شورش، کے خلاف اشتعال انگیز پروپیگنڈا۔ تحـریـضی: اکسانے والا، ابھارنے والا، ہیجانی، ہیجان پیدا کرنے والا، اشتعال انگیز، برانگیختہ کرنے والا، آتش افروز۔ حـارِض: برا، خراب، پاپی، بدکار، بداعمال، نقصان رساں، مضر۔ مُـحَـرِّض: اکسانے والا، ترغیب دینے والا، اعانت جرم کرنے والا، جذباتی تقریریں کرنے والا، لوگوں کو اشتعال دلانے والا مقرر، تحریک میں حصہ لینے والا، اشتعال دلانے والا۔

حرف: ۱۔ حَرَفَ ـِ حَرْفًا الشيءَ عن وجهه: کو پھیر دینا، جھکا دینا۔ ـــ عن الشیءِ: سے انحراف کرنا۔ حَـرَّفَ الشیءَ: کو جھکانا، کا کنارہ بنانا۔ ـــ القلمَ: قلم کو ترچھا قط دینا۔ ـــ القولَ: بات کو بدل دینا، تبدیل کر دینا۔ تَحَرَّفَ عنه و اِنْحَرَفَ و اِحْـرَوْرَفَ: سے جھک کر ایک طرف ہو جانا۔

الحَرف جمع حِرَف: کنارہ، دھارا، سرا۔ حَرْفُ الجَبَل: پہاڑ کا تیز سرا، پہاڑ کی تیکھی چوٹی۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ علی حرفٍ من امرہ: فلاں شخص معاملہ کے کنارے پر ہے یعنی اگر کوئی چیز بھی خلاف خاطر ہوئی تو وہ فوراً اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا۔ حَرْفُ النہر: دریا کا کنارہ۔

۲۔ حَرَفَ - حَرْفًا لعیاله: اپنے عیال کے لئے اِدھر اُدھر سے کما کر لانا۔ اَحْرَفَ: اہل وعیال کے لئے محنت ومشقت برداشت کرنا۔ تَحَرَّفَ لعیاله: ہر پیشہ سے عیال کے لئے کمائی کرنا۔ اِحْتَرَفَ: کوئی پیشہ اختیار کرنا۔ لاهله: اپنے گھر والوں کے لئے کمائی کرنا۔ الحِرْفَة جمع حِرَف: پیشہ، ہنر، کمانے کا طریقہ۔ المَحْرَف و المُحْتَرَف: کمائی کرنے کی جگہ، ادھر ادھر حرکت کرنے اور عمل کرنے کی جگہ۔ یہ دونوں لفظوں بالعموم ماہرانہ دستکاری سے خاص ہیں۔ حَرِیفُ الرجل جمع حُرَفاء: ہم پیشہ۔ المُحْتَرِف: پیشہور۔

۳۔ حُرِفَ فی ماله حَرْفَةً: کے مال میں سے کچھ ضائع ہونا۔ المُحَرَّف: جس کا مال جاتا رہا ہو۔

۴۔ حَارَفَ الجرحَ: زخم کو سلائی سے ٹٹول کر اس کا اندازہ کرنا۔ المِحْرَف و المِحْرَاف: زخم کی گہرائی کا اندازہ کرنے کی سلائی۔

۵۔ حارَفَ الرجلَ: کو بھلائی یا برائی کا بدلہ دینا۔ ہ: کے ساتھ کاروبار کرنا، معاملہ کرنا، برتاؤ کرنا۔ شاعر کہتا ہے: فقد علموا فی الغزو کیف نحارف: ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لڑائی میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ اَحْرَفَ الرجلَ: کو بھلائی یا برائی کا بدلہ دینا۔

۶۔ اَحْرَفَ: بدحالی کے بعد خوش حال ہونا۔

۷۔ اَحْرَفَ الناقةَ: اونٹنی کو دبلا کرنا۔

۸۔ تَحَارَفَ علیه فی البیع وغیرہ: سے فروخت میں ہیرا پھیری کرنا۔ اِحْتَرَفَ: تلاش کرنا، حیلہ کرنا۔

۹۔ الحُرْف واحد حُرْفَة (ن): رائی، کالی مرچ کے دانے، محرومی۔ الحَرْف جمع حِرَف: پانی کی گذرگاہ۔ جمع حُرُوف و اَحْرُف: حروف تہجی میں سے ایک حرف جس کو حرف المبنی کہتے ہیں۔ فی النحو: وہ کلمہ جو دوسرے سے مل کر معنی دے اور اس کا نام حرف المعنی ہے۔ کلمہ، جیسے کہتے ہیں ہذا الحرف لیس فی القاموس: یہ کلمہ (لفظ) ڈکشنری میں نہیں ہے۔ الحُرْفَة: محرومی، بدبختی۔

المُحَارَف: محروم، پھوٹی قسمت والا۔ الحَرَافَة: (ذائقہ کی) جلن، تیزی تلخی۔ الحِرِّیف: تلخ، جلن دار، تیز۔ کہتے ہیں: ہذا بصلٌ حِرِّیف: یہ پیاز تیز ہے۔

حَرَّفَ ہ: کو ڈھلواں کرنا، ترچھا کرنا، جھکانا، ترچھا بنانا، خم دار بنانا، خم کرنا، موڑنا، کا حلیہ بگاڑنا، بات کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کے بارے میں غلط بیانی کرنا، میں کھینچ تان کر بیان کرنا، کے بارے میں غلط تاویل کرنا، کے غلط معنی لینا، کا غلط معنی نکالنا، کو کچھ کا کچھ سمجھنا، کی غلط تفسیر کرنا، سے غلط نتیجہ نکالنا، کو بگاڑنا، گھڑنا، میں ردوبدل کرنا اور کے متعلق غلط بیانی کرنا۔ حَرَّفَهُ عن موضعه: کا مفہوم بگاڑنا، توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کے صحیح معنی چھین لینا۔ تَحَرَّفَ: ایک راستہ چھوڑ کر دوسرے پر سفر کرنا، ایک سڑک سے دوسری کی طرف مڑنا، مُڑنا۔ ـــ عن: سے منحرف ہونا، ہٹنا، تجاوز کرنا، انحراف کرنا، (اصل موضوع سے) ہٹنا، سے پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، بچنا، کنی کترانا۔ ـــ: حلیہ بگڑا ہونا، مسخ شدہ ہونا، توڑ مروڑ کر بیان کیا ہوا ہونا، میں غلط بیانی کی گئی ہونا، بگڑا ہوا ہونا، خراب ہونا، غلط تاویل کیا گیا ہونا، راہِ راست سے بھٹکا ہوا ہونا۔

اِنْحَرَفَ: مڑنا۔ ـــ عن: سے ہٹنا، منحرف ہونا، تجاوز کرنا، انحراف کرنا، اعراض کرنا۔ ـــ اِلی: کی طرف مڑنا، کا رخ کرنا۔ ـــ ب: کو ترچھا دکھانا، ڈھلوان ظاہر کرنا، توڑا مروڑا ہوا دکھانا، خراب دکھانا، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا دکھانا۔ ـــ به عن: کو سے باز رہنے کو کہنا، کو کے خلاف مشورہ دینے سے روکنا۔ اِنْحَرَفَ مزاجُه: کی طبیعت کا ناساز ہونا، کا بیمار ہونا۔ ـــ: ترچھا ہونا، ڈھلواں ہونا، ٹوپی کا ٹیڑھا یا بانکا ہونا۔ اِحْتَرَفَ ہ: کوئی کام پیشہ کے طور پر کرنا۔ ـــ: کامیابی کے لئے جدوجہد کرنا۔ حَرْف جمع حِرَف: (چاقو، تلوار کی) دھار، تیز کنارا، حد، سرحد، کنارا (پیالے، پہیے وغیرہ کا)، کنارا (جیسے برلب ..... میں) کنارہ (جیسے مصیبت کے کنارے پر)۔ جمع حُرُوف و اَحْرُف: حرف، حرف صحیح، حرف (گرامر میں اسم، ضمیر، صفت یا فعل کے علاوہ) ٹائپ (type)۔ علی حرفٍ: غیر مستقل مزاج، متلون، مذبذب، کچے ارادے کا، ڈگمگ، پس وپیش میں، غیر جانبدار۔ الفاظُهُ بحروفها: واقعی اس کے الفاظ۔ بالحرف یا بالحرف الواحد: لغوی معنی میں، حقیقی معنی میں، لفظی طور پر، واقعی، سچ مچ، من وعن، عین مین، بالکل، ہو بہو، لفظ بلفظ، حرف بحرف، بعینه حَرْفًا بحرف: لفظ بلفظ، لفظی طور پر۔ وَقَّعَ بالاحرف الاولی معاهدةً: معاہدہ پر مختصر دستخط کرنا، معاہدہ پر مخفف دستخط کرنا، چھوٹے دستخط کرنا (to initial)۔ الحروف الابجدیة: حروف ابجد۔ الحروف الشمسیة: شمسی حروف، وہ حروف جن پر ال داخل ہو تو ان حروف کے ساتھ مل جائے۔ جیسے الناس میں تلفظ (انّاس) ہوگا۔ الحروف القمریة: قمری حروف وہ حروف تہجی جن میں ال داخل کیا جائے تو وہ ان سے علیحدہ رہے جیسے القمر میں (تلفظ ال قمر ہوگا)۔ حرف الجرّ: حرف جار جو ان الفاظ میں جن سے پہلے آئے آخری حرف کو زیر یا دو زیریں دے جیسے فی الکتاب (کتاب میں) فی کتاب (ایک کتاب میں)۔ اسے حرف الخفض بھی کہتے ہیں۔ حرف التعریف: ال جیسے قلم سے القلم میں۔ اس سے نکرہ مُعرّف ہو جاتا ہے۔ حرف العطف: دو لفظوں یا جملوں کو جوڑنے میں جو لفظ استعمال کیا جائے جیسے و (اور) حرف الاستفهام: سوال کرنے کے لئے جو حرف استعمال کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں۔ جیسے: مَنْ (کون)، ما (کیا)۔ حرف القسم: وہ حرف جس سے قسم کھائی جائے جیسے واللہ میں واو قسمیہ ہے۔ حَرْفِی: حرفی، لفظی۔ حِرْفَة: پیشہ، کاروبار، فن، ہنر، تجارت۔ حَرِیف جمع حُرَفاء: مستقل خریدار، مربی، سرپرست، گاہک۔ حِرِّیف: تیز، چبھتا ہوا، تلخ (ذائقہ)۔ حِرِّیفات: مسالہ دار، چٹ پٹا یا خوشبودار کھانا، مزے کی چیز، نفیس غذا۔ مُحْتَرِف ب: میں منفعت بخش طور پر لگا ہوا، پیشہ کے طور پر کوئی کام کرنے والا۔ صحافی محترف ب: پیشہ ور صحافی۔ محترف: پیشہ ور، دنیا میں ابھرنے کا متمنی، جسے صرف اپنی ترقی سے غرض ہو، ابن الوقت، مفاد پرست۔ مُحْتَرَف جمع مُحْتَرَفات: سٹوڈیو، اٹیلئر: وہ کمرہ یا عمارت جس میں کوئی فن کار، مصور یا نقاش کام کرتا ہے۔

حرق: حَرَقَ - حَرْقًا ہ بالنار: کو آگ سے جلانا۔ حَرَّقَ و اَحْرَقَ ہ بالنار: کو آگ سے جلانا۔ تَحَرَّقَ و اِحْتَرَقَ: آگ سے جلنا۔ الحُرَق و الحَرَق (مص): جلن۔ الحُرْقَة و الحَرْقَة: جلن، حرارت۔ کہا جاتا ہے: فی جوفه حرقة: اس کے پیٹ میں گرمی ہے۔ الحُرُوق و الحُرَّاق: سوختہ، چقماق۔ الحَرِیق جمع حَرْقَی: آگ لگنا، جلا ہوا۔ وہ جگہ جہاں آگ لگی ہو، گرمی وسردی وغیرہ سے جلی ہوئی نباتات، آگ کی

بھڑک، آگ کا شعلہ۔ الحُرَاق و الحِراق: بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ الحَرِيقَة جمع حَرَائِق فی اصطلاح العامّة: کسی جگہ آگ کا لگنا، حرارت۔ — و الحَرُوقَة: پانی ابال کر اس میں آٹا ڈالنے سے تیار کردہ ایک قسم کا کھانا۔ الحَرَّاقَة جمع حَرَّاقات: آگ پھینکنے والی کشتی۔ تارپیڈو (torpedo)۔ — عند العامة: جلد پر اُسے صاف کرنے کے لئے رکھی جانے والی چیز۔ المُحْرَقَة جمع مُحْرَقات: سوختنی قربانی، ہون۔

۲۔ حَرَقَ ـ حَرْقًا ہ بالمِبْرَد: کو ریتی سے رگڑنا۔ — الشیءَ: کسی چیز کے ایک حصہ کو دوسرے سے رگڑنا۔ — ـ حَرْقًا و حَرِيقًا و حُرُوقًا نابَهٗ علیه: پر دانت پیسنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ يحرُق علیَّ الأُرَّمَ: وہ میرے اوپر مارے غصہ کے دانت پیستا ہے۔ المِحْرَق: ریتی۔

۳۔ حَرِقَ ـ حَرَقًا شَعَرُهٗ: کے بالوں کا کٹ جانا یا گر جانا، جس کے بال کٹ گئے یا گر گئے ہوں اُسے حَرِقُ الشَّعَر کہا جاتا ہے۔ الحَرَق: چھوٹے بال۔

۴۔ حَرِقَ و حُرِقَ: کے پاؤں کے پٹھے یا رگ کا کٹا ہوا ہونا۔ الحَارِقَة: پاؤں کا پٹھا یا پاؤں کی رگ۔ الحُرَقَة و الحَارُوقَة و الحُرَّاقَة من السیوف: تیز کاٹنے والی تلوار۔

۵۔ حَرِقَ المرعَی الإبلَ: چراگاہ کا اونٹوں کو پیاس لگانا یا پیاسا کرنا۔

۶۔ الحَرِق: بہت بجلی چمکانے والا بادل۔ الحُرَاق و الحُرَّاق: بہت کھاری پانی۔ الحُرَاق و الحِراق: ہر شے کو خراب کرنے والا۔ حُرَاق اصبعه: عام لوگوں کے ہاں ایک معروف کھانے کا نام۔

۷۔ الحِرْقِد جمع حَرَاقِد: زبان کی جڑ۔ الحَرْقَدَة: حلق کی گرہ۔

۸۔ حَرْقَصَ فی المشی: چلنے میں چھوٹے قدم رکھنا۔ — الکلامَ: جلدی جلدی بولنا۔ — ہ: پر پیار سے ہاتھ پھیرنا، کو تنگ کرنا۔ — اللحمَ و نحوه: گوشت وغیرہ کو تلنا۔ الحُرْقُوص جمع حَرَاقِيص (ح): پسو کے مانند ایک کیڑا، چابک کا سرا۔ — و الحَرصوص: تلے ہوئے گوشت کی ایک چھوٹی بوٹی۔

۹۔ الحَرْقَفَة جمع حَرَاقِف و حَرَاقِيف (ع ا): سرین کی ہڈی کا سرا۔ الحُرْقُوف (ح): لاغر جانور۔

☆ حَرَقَ ہ: کو جلانا۔ —: جلنا، چوٹ کھانا، اذیت محسوس کرنا، میں ٹیس اٹھنا، چست و چالاک ہونا۔ حرق قلبَهٗ جمع حرق قلوبَهم: کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، دق کرنا، کو غصہ یا اشتعال دلانا، بھڑکانا۔ — ـ حَرْقًا ہ: کو اکھاڑ کر گرانا۔ حَرَّقَ ہ: کو جلانا۔ — اَسْنانَهٗ: دانت پیسنا۔ أَحْرَقَ ہ: کو جلانا، کو آگ سے برباد کرنا، کھلسانا، جلا کر سیاہ کرنا، کو جھلس دینا، کو بھوننا، کو گرم پانی سے دھونا، کو ابالنا، جوش دینا، کو آگ لگانا، سلگانا، تپانا۔ اَحْرَقَ فَحْمَةَ لَيْلِهٖ فِي: کوئی کام کرتے ہوئے رات گزار دینا، رات گئے تک مطالعہ یا کام کرتے رہنا۔ تَحَرَّقَ: جلنا، بھڑکنا، شعلہ زن ہونا، مشتعل ہونا، گرم ہو کر تباہ ہو جانا، آگ پکڑنا، آگ سے بھسم ہو جانا، خاک سیاہ ہو جانا، برباد ہو جانا، احساس، جذبہ سے بھر جانا۔ — ہ بے کھل کھل کر مر جانا، — سے بہت ناراض ہونا، ناخوش ہونا۔ تَحَرَّقَ شوقًا: بڑی خواہش، بڑی آرزو یا وطن کی یاد سے نڈھال ہونا۔ اِحْتَرَقَ: جلنا، شعلہ زن ہونا، مشتعل ہونا، گرم ہو کر تباہ ہو جانا، میں آگ لگنا، آگ سے بھسم ہو جانا، خاک سیاہ ہو جانا، برباد ہو جانا۔ حَرْق: جلنا، خاکستر کر دینا، عمل احتراق، آگ میں جل جانا، آگ میں جل بجھنا، آگ جلانا، آگ لگانا، آگ لگنا، آتش زنی، جمع حُرُوق جلن۔ حَرَق: آگ، آتش، بھابڑ، آتش زدگی۔ حُرْقَة و حَرْقَة: جلنا، خاکستر کر دینا، جلنا، آگ میں جل جانا، آگ میں جل بجھنا، اذیت، ٹیس، جلن، تکلیف، سوہان روح، روحانی اذیت، درد و کرب، سخت امتحان، کڑی آزمائش۔ حُرَاق و حُرَّاق: آگ پکڑنے والی کوئی سوکھی چیز، سوختہ۔ حَرَّاق جلتا ہوا، شعلہ زن، گرم۔ حَرِيق و حَرِيقَة جمع حَرَائِق: آگ، آتش، بھابڑ، آتش زدگی۔ حَرَّاقَة تارپیڈو۔ حَرَقان: جلنا، پاؤں میں درد۔ مَحْرَق جمع مَحَارِق: نقطہ، ماسکہ، مرکز۔ تَحَارِيق دریائے نیل کے انتہائی نچلی سطح پر بہنے کا موسم، سال کا گرم ترین موسم۔ تحرّق إلی: کے لئے سخت آرزو۔ تَحَرُّق: جلنا، جلانا، خاکستر کر دینا۔ تحرُّق جلنا، آگ میں جل جانا، آگ میں جل بجھنا، اِحراق: جلنا، جلانا، خاکستر کر دینا۔ تحرُّق جلنا، آگ میں جل جانا، آگ میں جل بجھنا۔ اِحْتِرَاق: جلنا، آگ میں جل جانا، آگ میں جل بجھنا، آگ، آتش، بھابڑ، آتش زدگی۔ غُرْفَة الاحتراق (بلوے) انجن میں وہ جگہ جہاں تیل جلا کر حرارت اور روشنی پیدا کی جاتی ہے۔ قابلُ الاحتراق: آتش گیر۔ حَارِق: جان بوجھ کر کسی عمارت وغیرہ کو آگ لگانے والا، آتش انداز، آتش زن، جلانے والا۔ مَحْرُوق: جلا ہوا، جل کر کوئلہ ہونے والا، جھلسا ہوا، بھونا ہوا، سرخ گوں، سرخی مائل، کانسی کے رنگ کا جمع مَحْرُوقات: ایندھن۔ فَخَّارٌ مَحْرُوقٌ: آگ میں تپائی ہوئی مٹی۔ قُنْبُلَةٌ مُحْرِقَة: آگ لگانے والا بم۔ مُحْرَق: مسان، لاش بھٹی۔ مُحْرَقَة: سوختنی قربانی۔

○ حَرْقَدَة جمع حَرَاقِد: کلٹھ، کنٹھا۔

○ حَرْقَفَة جمع حَرَاقِف: کولہے کی ہڈی کا باہر کو نکلا ہوا حصہ۔

حرك ۱۔ حَرَكَ ـ حَرْكًا: ادائیگی حق سے رکنا۔

۲۔ حَرَكَ ـ حَرْكًا: کے شانوں میں درد ہونا۔ — ہ: کے شانوں پر مارنا۔ — حَارِكَهٗ: کے شانوں کو کاٹنا۔ — ہ بالسیف: کی گردن مارنا۔ حَرِكَ ـ حَرَكًا: کے پہلوؤں یا شانوں کا کمزور ہونا۔ صفت: حَرِيك مؤنث حَرِيكَة۔ الحَارِك (ف): شانہ۔ المَحْرِك: گردن اور سر کے جوڑ کی جگہ۔

۳۔ حَرُكَ ـ حَرَكًا و حَرَكَةً: ہلنا، حرکت کرنا۔ حَرَّكَ ہ: کو ہلانا، حرکت دینا۔ تَحَرَّكَ: ہلنا، حرکت کرنا۔ کہا جاتا ہے: حَرَّكَ مِنّی الامرُ: معاملہ نے مجھ کو بے چین کر دیا، میں معاملہ سے بے چین ہو گیا۔ الحَرَكَة: ہلنا، حرکت۔ الحركة اليومية الظاهرة (فلك): خیالی کرہ سماویہ کی کائنات کے محور کے گرد حرکت، جس کی وجہ زمین کا اپنے محور کے گرد گردش بتائی جاتی ہے اس گردش میں تقریباً ۳ منٹ، ۵۶ سیکنڈ کم ۲۴ گھنٹے لگتے ہیں۔ الحَرَاك: حرکت، ہلنا۔ الحَرِك: ہلکا پھلکا، چست، تیز خاطر۔ کہا جاتا ہے: غلام حَرِك: سبک و تیز خاطر لڑکا۔ المِحْرَاك: کرچھنی، ہلانے کی چیز۔ المُحَرِّك جمع مُحَرِّكات: (ہوائی جہازوں، کاروں موٹر سائیکلوں وغیرہ کا) انجن، موٹر۔

☆ حَرَّكَ ہ: کو ہلانا، حرکت دینا، (کار وغیرہ) چلانا، چالو کرنا، ڈرائیو کرنا، کو آگے کو دھکیلنا، (مشین وغیرہ) چلانا۔ — ہ (فوج) کو چلانا، متحرک کرنا، حرکت میں لانا، — ہ: کو حرکت دینا، ہلانا، کو شروع کرنا، (گاڑی انجن) سٹارٹ کرنا، کو ابھارنا، میں تحریک پیدا کرنا، ہیجان پیدا کرنا، برانگیختہ کرنا، میں ہلچل ڈالنا، اضطراب پیدا کرنا، کو مضطرب کرنا، بے چین کرنا، کو ہیجان میں لانا۔ — ہ علی: کو پراکسانا، برانگیختہ

کرنا، ابھارنا، کو کی شہ دینا، کو کی ترغیب دینا، کو پر بھڑکانا، ورغلانا، آمادہ کرنا، سے کا تقاضا کرنا۔ — ہ: کو ہوشیار کرنا، خبردار کرنا، جگانا، سلگانا، برانگیختہ کرنا، جوش میں لانا، بھڑکانا۔ — ہ: کو حرکت دینا۔ حَرَّكَ مشاعرَهُ: کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے رکھنا، میں جذبات کی لہر دوڑا دینا، کے دل میں اتر جانا، ہیجان پیدا کرنا، برانگیختہ کرنا۔ حَرَّكَ العواطِفَ: احساسات وجذبات پر اثر انداز ہونا، رقت انگیز ہونا، پردرد ہونا، موثر ہونا، دل گزار ہونا، پر اثر ہونا، دل سوز ہونا، دل پر اثر کرنے والا ہونا۔ لایُحَرِّكُ ساكِنًا: وہ سرکتا ہی نہیں، وہ غیر متحرک رہتا ہے، بے حس، کٹھور یا سرد مہر رہتا ہے۔ حَرَّكَ ساكِنَهُ: کو بیدار کرنا، جگانا، کو بھڑکانا، جوش دلانا، ہیجان میں لانا۔ تَحَرَّكَ: ہلنا، حرکت کرنا، چالو ہونا، سرکنا، ہٹنا، چلنے یا حرکت کرنے لگنا، روانہ ہونا، (مسافر کا) سفر پر ہونا، (ریل گاڑی کا) روانہ ہونا (جہاز کا) سمندری سفر شروع کرنا یا سمندری سفر پر جانا یا چلنا، چالو ہونا، (کار وغیرہ کا) ڈرائیو کیا جانا، (مشین کا) چلایا جانا، پریشان ہونا، جوش میں ہونا، ہیجان پیدا کیا جانا، تحریک پیدا کیا جانا، آمادہ ہونا، بیدار ہونا، برانگیختہ ہونا، بھڑکنا، سلگنا، مستقل ہونا، ظہور میں آنا، بروئے کار ہونا۔ حَرِكٌ: فعال، خوش طبع، زندہ دل، تیز، ذہین، تیز فہم۔ حَرَكَة جمع حرکات: حرکت، جنبش، تحریک، (فوجی) نقل وحرکت، مشین کے پرزوں کا عمل، چال، رفتار، گردش، گڑبڑ، کھلبلی، ہلچل، ہنگامہ، افراتفری، شورش، بے قراری، بے کلی، جسمانی ورزش، ہیجان، ترنگ، پالیسی طریق کار، طریق عمل، کارروائی، دستور العمل، فعل، عمل، کام، مہم، فوجی نقل وحرکت، جاری رہنا، ترقی، ہونا، آمدورفت (ریل، جہازوں، گلی سڑک کی)۔ فی حرکاته و سکناته: اس کے تمام کاموں یا کرتوتوں میں، ہر صورت حال میں۔ حرکة المرور: آمدورفت ٹریفک۔ حرکة المراكب: بحری جہازوں کی آمدورفت۔ حركة البضائع: سامان تجارت کا تبادلہ۔ حركة الاموال: مقررہ وقت کی بکری (turnover)۔ الحركة النسوية: مساوات نسواں کی حامی تحریک۔ خَفِيفُ الحركة: پھرتیلا، چست و چالاک، لچکیلا، نرم، ملائم، ہلکا، تیز، ہوشیار، مستعد۔ ثَقِيلُ الحركة: حرکت میں سست، دھیما، مٹھا، لوگوں کے احساسات سے متاثر نہ ہونے والا، بے ہمت، ناموزوں، بے ڈھنگا، بھاری قدموں سے چلنے والا، غیر متحرک، بے عمل، سست، کاہل، آرام

طلب۔ حِرَكِيّ: حرکت کا، متحرک۔ حَرَاك: حرکت، نقل وحرکت، جنبش، چال، رفتار، گردش۔ مَتحَرَّك: راستہ، گولی، گولے وغیرہ کا خط حرکت۔ مِحْرَاك: آگ کریدنی۔ تَحْرِيكِيّ: حرکت دینے والا، اثر آفرین، قوت عمل کا حامل، قوت آفریں۔ تَحَرُّك جمع تَحَرُّكات: حرکت، نقل وحرکت، جنبش، چال، رفتار، گردش، آگے کی طرف بڑھنا، آغاز، روانگی، (جہازوں کا) سمندر میں چلنا۔ حَارِك: کندھوں کے درمیان گھوڑے کی پیٹھ کا بلند ترین حصہ۔ مُحَرِّك: تحریک کرنے والا، برانگیختہ کرنے والا، اکسانے والا، ابھارنے والا، بھڑکانے والا، جگانے والا، سبب، عامل (جمع عوامل) (جمع مُحَرِّكات)۔ مُحَرِّك، وجہ، مہیج، شوق وجذبہ، مہمیز، محرک حالات، عملی یا سببی عامل، موٹر، انجن۔ مُتَحَرِّك: حرکت کناں، متحرک، منقول، چلنے پھرنے والا، نقل پذیر، حرکت پذیر۔ صُوَر مُتحَرِّكة: فلم motion pictures, movies۔

☆ حَرْكَثَ (و حَرْكَش): مشتعل کرنا، اکسانا، دل میں اتر جانا، اثر کرنا، ہیجان پیدا کرنا۔

حرم: ا۔ حَرَمَ ــِ و حَرِمَ ــَ حِرمًا و حَرِيمًا و حِرْمانًا و حَرِمًا و حِرْمَةً و حَرِيمَةً ہ الشیء: کو سے روکنا، منع کرنا، محروم کرنا۔ حرم الاسقف فلانًا: لاٹ پادری کا کسی کو ایمان داروں کے ساتھ شرکت کرنے سے منع کرنا۔ ایسا شخص محروم کہلاتا ہے۔ حَرُمَ ــُ حَرَمًا و حَرَامًا و حَرُمَ ــَ حُرمًا و حُرُمًا و حُرْمَةً و حَرِمَةً و حَرَامًا علیه الامرُ: پر کوئی امر حرام ہونا۔ حَرَّمَ: ماہ حرام میں داخل ہونا۔ — الشیءَ: کو حرام ٹھہرانا۔ أَحْرَمَ: ماہ حرام میں داخل ہونا، حرم یا ایسی حرمت میں داخل ہونا جس کی بے حرمتی حرام ہے، محفوظ ہونا۔ — الشیءَ: کو حرام ٹھہرانا۔ — عن الشیء: سے رکنا، باز رہنا۔ تَحَرَّمَ منه بِحُرْمَةٍ: کسی کی ذمہ داری میں آکر محفوظ و مامون ہونا۔ — به: کے ساتھ زندگی گزارنا اور آپس میں حرمت کا پختہ و مضبوط ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَحَرَّمْتُ بِطعامِك و مَجالِسك: ساتھ کھانا کھانے اور بیٹھنے سے اب تمہارا مجھ سے اس چیز کا لینا جائز نہیں رہا، جس کا پہلے لینا روا تھا۔ اِحْتَرَمَ ہ: سے ڈرنا اور اس کی حرمت وعزت کا لحاظ رکھنا۔ — الشیءَ: سے محروم ہونا، یہ دونوں معنی اس قول میں اکٹھے ہوگئے ہیں۔ لاتَحْتَرِم فتُحْتَرَم: خوف نہ کرو ورنہ خیر سے تہی دست رہو گے۔ اِسْتَحْرَمَ

الشیءَ: کو حرام سمجھنا۔ الحُرُم: حج کا احرام (اس کے مقابل حِل ہے)۔ الحُرُم: ایک مرد کی بیویاں۔ الأشهُرُ الحُرُم: ذوالقعدہ، ذوالحجہ ومحرم اور رجب کیوں کہ عرب ان مہینوں میں لڑائی کو بند رکھتے تھے۔ الحَرَم جمع أحْرَام: جس کا بچاؤ اور دفاع کیا جائے، جس کی بے حرمتی جائز نہ ہو۔ الحَرَم الأقصى: بیت المقدس۔ الحَرَمان: مکہ اور مدینہ۔ الحِرْم جمع حُرُم: حرام، احرام کا عرصہ، واجب جس کا ترک کرنا جائز ہو۔ الحِرْمان: محرومی، عدم رزق۔ الحُرْمَة و الحُرُمَة و الحُرَمَة جمع حُرَم و حُرُمات و حُرْمات: حقوق اللہ جن کا ادا کرنا فرض اور نظر انداز کرنا حرام ہے، جس کی بے حرمتی جائز نہیں، ذمہ، عظمت، ہیبت۔ حُرْمَةُ الرجل: بیوی۔ الحَرُمَة: حفاظت۔ الحَرَام: خلاف حلال۔ کہا جاتا ہے: حرام الله لا افعل هذا: خدا کی قسم میں ایسا کروں گا نہیں جس طرح کہتے ہیں: یمین الله لا افعل: کہا جاتا ہے: رجل حرام و قوم حرام: دونوں جگہ واحد کی شکل میں آتا ہے کیونکہ یہ دراصل مصدر ہے معنی احرام باندھنا والا اور احرام باندھنے والے۔ الشهرُ الحَرَام: محرم کا مہینہ۔ البَلَد الحَرَام: مکہ۔ المسجد الحرام: کعبہ۔ الحَرِيم جمع حُرُم و أَحْرُم و أحارِيم: حرام شے جس کو بسبب حرمت چھو نہ سکیں، شاہی محل کے گرد اگرد وسیع جگہ۔ احرام باندھنے والے کا کپڑا، ہر وہ جگہ جس کی حفاظت واجب ہو۔ حَرِيمُ الرجل: آدمی کی قابل حفاظت چیز اس لئے آدمی کی بیویوں کو حریم کہتے ہیں۔ الحَرِيمَة: نہ حاصل ہو سکنے والی مرغوب چیز۔ المُحْرِم: وہ شخص جو کسی کی پناہ اور حفاظت میں ہو۔ کہا جاتا ہے: انه لمُحرِم عنك: اس کی تکلیف تم پر حرام ہے۔ المَحْرَم جمع مَحَارِم: حرام، ناجائز کام، جرم۔ مَحَارِم اللیل: رات کے خطرات۔ الحَرَامِيّ: حرام کار، چور۔ المَحْرَمَة اور المَحْرُمَة جمع مَحَارِم: وہ چیز جس کی بے حرمتی جائز نہ ہو۔ مُحَرَّم: قمری سال کا پہلا مہینہ، حرمت والا۔ المَحْرُوم: خیر و بھلائی سے محروم، وہ شخص جس کا مال نہ بڑھے، وہ بدقسمت جو کمانے سے عاجز ہو۔ المُحْتَرَم: جناب۔

۲۔ حَرِمَ ــَ حَرَمًا و حَرَامًا فی القِمار: جوئے میں ہارنا۔ حَرَّمَ و أَحْرَمَ ہ فی القِمار: سے جوئے میں جیت جانا۔ الحُرْمَة و الحُرُمَة و الحُرَمَة

جمع حُرَم و حُرَمات و حُرُمات: حصہ۔

۳۔ المُحْرِم: صلح جو، صلح پسند، صلح کرنے والا۔ مُحَرَّم: ہم کہتے ہیں: جلدٌ مُحَرَّمٌ: بے رنگا چمڑا۔ سوطٌ مُحَرَّمٌ: نرم نہ کیا ہوا کوڑا۔ اِعْرَابِیٌّ مُحَرَّمٌ: اجڈ، اکھڑ، دیہاتی۔ المَحْرُمَة: جیبی رومال۔

۴۔ حَرْمَدَ فی الأمر: میں اصرار کرنا۔ الحِرمِد و الحَرْمَد: رنگ و بو بدلا ہوا۔ سیاہ کیچڑ۔

۵۔ حَرْمَزَ ہ: پر لعنت کرنا۔

۶۔ الحَرْمَل (ن): ایک قسم کی بوٹی جو دھونی دینے کے کام آتی ہے۔ اسہال روکتی، خون صاف کرتی اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔

حَرُمَ ـ و حَرِمَ ـ حَرَمًا الخ علی: پر حرام ہونا، کیلئے ناجائز ہونا، پر ممنوع ہونا۔ حَرَمَ ـ حِرْمًا و حِرمانا ہ ہ یا ہ من: کو سے محروم کرنا، کو سے بیدخل کرنا۔ ــ ہ ہ/من ہ/ ہ من: سے کچھ دور کرنا، نکلوانا، روکنا، کو کچھ نہ دینا، سے کچھ لینے سے انکار کرنا۔ ــ ہ ہ/ ہ من: کو سے خارج کرنا، نکال دینا، کو سے روکنا، باز رکھنا، منع کرنا۔ ــ ہ: کو ذات (چرچ وغیرہ سے) باہر کرنا، کا حقہ پانی بند کرنا۔ حَرَّم ہ: مُقدس، حرام، واجب التعظیم، محترم، قابل عزت یا ممنوعہ قرار دینا، کو غیر قانونی، ناروا، ناجائز، غیر مباح ٹھہرانا۔ ــ ہ علی: کو سے منع کرنا، پر کی قدغن لگانا، پر کی ممانعت کرنا، کے لئے کوئی چیز ممنوع قرار دینا، حرام ٹھہرانا۔ ــ ہ من: کو سے محفوظ بنانا، کو سے بے خوف کرنا۔ حَرَّمَهُ علی نفسه: سے باز رہنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا۔ اَحْرَمَ ہ: کو چرچ بدر کرنا، احرام باندھنا۔ تَحَرَّم: حرام ہونا، ممنوع ہونا، مقدس ہونا واجب التعظیم ہونا۔ اِحْتَرَمَ ہ/ ہ: کا احترام کرنا، کی عزت کرنا، توقیر کرنا۔ اِحْتَرَمَ نَفْسَهُ: خوددار ہونا، غیرت مند ہونا۔ اِسْتَحْرَم ہ: کو مقدس، پاکیزہ، واجب التعظیم سمجھنا یا کو ناجائز، ناروا، غیر قانونی یا حرام سمجھنا۔ حِرْم: مسیحی دین کے حقوق سے اخراج، برادری یا ذات سے اخراج۔ حَرَم جمع اَحْرَام: ممنوع، حرام، مقدس، پاک، متبرک، واجب التعظیم، مقدس چیز، مقدس مال و دولت، بیوی، حرم، خلوت کدہ، مقدس مقام، عبادت خانہ، معبد، درگاہ، جائے امن، مقدس احاطہ۔ الحَرَمَان: مکہ و مدینہ۔ ثَالِثُ الحرمین: تیسرا حرم: یروشلم (بیت المقدس)، قدس شریف۔ حُرْمَة جمع حُرُمات و حُرَمات: پاکی، تقدس، واجب الاحترام ہونا، مقدس ہونا، واجب التعظیم ہونا، محترم ہونا، احترام، تعظیم، تکریم، عزت، قدر، لحاظ، پاس یا جو پاک، مقدس، واجب التعظیم یا حرام ہو۔ (جمع حُرَم) عورت، خاتون، بیوی۔ حَرَام جمع حُرُم: حرام، ممنوع، غیر قانونی، ممنوع یا حرام چیز، گناہ، جرم، حرام، قابل تعظیم، مقدس، متبرک، ملعون، لعنتی، مردود، راندہ درگاہ، بدبخت منحوس۔ ابن حرام: حرامی، ولدالزنا، ناجائز اولاد۔ الاراضی الحَرَام: دو فوجوں کے درمیان خالی علاقہ، بچولی زمین۔ حرامٌ علیك: تمہیں (ایسا) نہیں کرنا چاہئے۔ بالحَرَام: ناجائز طور پر غیر قانونی طور پر، خلاف قانون طور پر۔ حِرام جمع حِرامات و أَحْرِمَة: اونی کمبل۔ حَرِیم جمع حُرُم: مقدس اور قابل تعظیم جگہ، عبادت گاہ، معبد، درگاہ، جائے امن، حرم، خلوت کدہ، مقدس مقام، عبادت خانہ، مقدس احاطہ، کسی کنبہ کی خواتین ارکان، عورتیں، بیوی۔ حَرِیمیّ: عورتوں کا، عورتوں کے لئے۔ حُرُوم جمع حُرُومات: مسیحی دین کے حقوق سے اخراج، برادری یا ذات سے اخراج۔ حِرْمَان: محرومی، ــ (من: کے ساتھ) سے: سے بیدخلی، اخراج، محرومی، روک، مسیحی دین کے حقوق سے اخراج، برادری یا ذات سے اخراج، ضروریات زندگی سے محرومی۔ حِرمَانُ الإِرْث: ترکہ سے اخراج، محروم الارث کرنا۔ مَحْرَم جمع مَحَارِم: ممنوع، قابل تعظیم، حرام، پاکیزہ، مقدس یا متبرک چیز، جو شادی کے قابل نہ ہو (شادی میں مانع خونی رشتہ کے درجہ میں ہونے کی وجہ سے)۔ مَحْرَمَة جمع مَحَارِم: دستی رومال۔ اِحرام: مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر حج کرنے والے کے لئے ایک مخصوص لباس پہننے، کنگھی نہ کرنے، حجامت نہ کرنے اور جنسی پرہیز کی حالت، حج کرنے والے کا لباس۔ احترام جمع احترامات: قدر، تعظیم، لحاظ، پاس، ادب، احترام، عزت، تعظیم، تکریم، استحقاق کا اعزاز جمع احترامات: تسلیمات، آداب، سلام، تحسینات۔ مُحْرِم: احرام باندھنے والا۔ مُحْتَرَم: عزت کیا گیا، توقیر کیا گیا، احترام کیا گیا، محترم، عزیزم (خطوط میں)، محترم، مقدس، بزرگ، مشہور، ممتاز، غیر معمولی، قابل ذکر۔

حَرَامِی جمع حَرَامِیة: چور، ڈاکو، رہزن۔

○ حَرْمَل: افریقی اسپند، کالا دانہ، سداب۔

○ حَرْمَلَة جمع حَرَامِل: کندھوں پر اوڑھا جانے والا شال۔ (درویشوں کی پوشاک)۔

حرن: حَرَنَ و حَرُنَ ـ حُرونًا و حُرَانًا و حِرانًا البغل: خچر کا اڑ جانا، اکڑ جانا اور چل کر نہ دینا۔ صفت حَرُون جمع حُرُن (مذکر و مؤنث)۔ ــ بالمکان: کسی جگہ سے نہ ہٹنا۔ ــ العسلُ فی الخَلِیَّة: شہد کا چھتہ میں ایسا چپکنا کہ اسکا نکالنا دشوار ہو۔ حَرَنَ فی البیع: برابر قیمت پر رہنا، نہ کم نہ زیادہ کرنا۔ ــ القطنَ: روئی دھننا۔ المِحْرَن: روئی دھننے کی کمانی۔

○ حَرَنَ و حَرُنَ ـ حِرانًا و حُرانًا: ضدی ہونا، ہٹ کا پکا ہونا، ہٹ دھرم ہونا، ہٹیلا ہونا، منہ زور ہونا، سرکش ہونا، نارضامند ہونا، غیر آمادہ ہونا، بیدل ہونا، مزاحم ہونا۔ حَرُون جمع حُرُن: ضدی، ہٹ کا پکا، ہٹ دھرم، ہٹیلا، منہ زور، سرکش، نارضامند، غیر آمادہ، بیدل، مزاحم۔

○ حَارُون: کسیرا، ٹھٹھیرا، پیتل کا کام کرنے والا۔

حرا: الحَرَا جمع أَحْرَاء: گھر کا صحن (کہا جاتا ہے نزلتُ بحَرَاهُ: میں اس کے صحن میں اترا) آواز، گرہ، ہرن کی پناہ گاہ، لائق، کہا جاتا ہے: بالحَرَا أن یکون ذاك: وہ اس لائق یا اہل ہے کہ وہ ہو۔ الحَرُوَة: غصہ یا درد کے سبب حلق، یا سینہ یا سر میں سوزش، رائی وغیرہ کے مزے کی تیزی کے ساتھ بدبو۔ الحَرَاوة: رائی وغیرہ کے مزے کی تیزی۔

☆ حَرُوَة: جلن، طیش، تاؤ، غصہ، جوش، غیظ، غضب، قہر، تیزی، تندی، چڑچڑاپن، درشتی، ذائقہ کی تیزی، حدت یا جلن، تیز، چبھتا ہوا، ناگوار بو۔

حری: حَرَی ـ حَرْیًا الشیءُ: گھٹنا، کم ہونا۔ أَحْرَی الشیءَ: کو گھٹانا، کم کرنا۔ الحارِیَة: بڑی عمر کا چھوٹا سانپ جو بہت زہریلا ہوتا ہے۔

۲۔ أَحْرِ بِه: وہ اس کے کس قدر لائق ہے۔ اَحْرِ: فعل امر ہے اور مراد اس سے تعجب ہے۔ بِه: باء حرف جر زائد جب کہ ہاء محل رفع میں ہے اور اَحْرِ کا فاعل ہے۔ تَحَرَّی: استعمال میں زیادہ مناسب و لائق کو طلب کرنا۔ دو چیزوں میں سے زیادہ بہتر کو طلب کرنا۔ ــ الأمرَ: کا ارادہ کرنا اور اس کو ترجیح دینا۔ الحَرِی جمع حَرِیُّون و أَحْرِیاء مونث حَرِیَّة جمع حَرِیَّات و حَرَایَا و الحَرِیُّ جمع أَحْرَاء و الحَرَی: (یہ تثنیہ اور جمع کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا)، لائق، مناسب، قابل۔ کہا جاتا ہے: إنّه لَحَرِیٌّ او حَرٍ او حَرًی بکذا و ان یفعل کذا: وہ اس چیز کے لائق ہے یا فلاں کام کرنے کا اہل ہے۔ الأَحْرَی: زیادہ لائق، زیادہ مناسب، زیادہ بہتر۔ المَحْرِی و المَحْرَاة: لائق، سزاوار۔ کہا جاتا ہے: هذا الأمر محری او

محراة لذلك اوبذلك: یہ کام اس کے لائق ہے۔

۳۔ تَحَرَّی بالمکان: کسی جگہ میں ٹھہرنا۔

۴۔ تَحَرَّی عنه: کو تلاش کرنا، کے بارے میں تحقیقات کرنا۔ رِجالُ التَحَرّی: خفیہ پولیس (والے)۔

○ تَحَرَّی ہ: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کے حصول کے پیچھے لگے رہنا، کے لئے جدوجہد کرنا، کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا، کی جانچ پڑتال کرنا، کی تفتیش کرنا۔ —— ہ/من: کی تفتیش کرنا، کے بارے میں حقائق معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ کے بارے میں تحقیقات کرنا۔ —— ہ: کا پکا ارادہ کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، کی بہبود یا برتری کے لئے کوشاں ہونا، کی نگہداشت کرنا۔ —— ہ/فی: پر توجہ کرنا، کی دیکھ بھال یا نگرانی کرنا۔ —— ان. دیکھنا کہیں..... خیال رکھنا مبادا، اپنی تسلی کر لینا کہ، کا پورا بندوبست کر لینا۔ بالحری: مشکل سے، صرف، محض، بمشکل، فقط۔ حَرِیّ جمع اَحْرِیاء ب: کیلئے کافی، مناسب، موزوں، کے لائق، کے قابل، کے شایاں۔ حَرِیٌّ بِالذکر: لائق ذکر، قابل توجہ، قابل لحاظ۔ حری بالتصدیق: قابل یقین، قابل اعتبار۔ او بالحری: یا صحیح، ٹھیک ٹھیک، بلکہ بہتر تو یہ ہے، بلکہ۔ أَحْرَی: زیادہ کافی، موزوں، مناسب یا شایان۔ او بالأحری: بلکہ، زیادہ صحیح طور پر، سچ تو یہ ہے کہ، زیادہ صراحت سے، زیادہ وضاحت سے بعینہ۔ تَحَرٍّ جمع تَحَرِّیات: تفتیش، تحقیقات، چھان بین۔ شُرْطَةُ التحری یا مصلحة التحری: خفیہ پولیس (secret police)۔

حزّ: ا۔ حَزَّ ۔ حَزًّا و اِحْتَزَّ ہ: کو کاٹنا۔ — العُودَ: لکڑی میں شگاف ڈالنا۔ تَحَزَّزَ: لکڑی میں شگاف پڑ جانا۔ الحَزّ واحد حَزَّة: لکڑی وغیرہ میں شگاف (ڈالنا)۔ الحِزَّة: خربوزہ وغیرہ کی پھانک۔ المَحَزّ: کاٹنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: قطع فاصاب المحزّ: اس نے کاٹا اور درست جگہوں پر کاٹا۔ المِحَزّ جمع مَحَازّ: شگاف ڈالنے کا آلہ۔

۲۔ حَزَّ ۔ حَزًّا الشیءُ فی صدرہ: کسی چیز کا کسی کو متاثر کرنا، برا اچھا اثر ڈالنا۔ حَزَّزَ اسنانَه: کے دانتوں کے کناروں کو تیز کرنا۔ الحَزّة: دل کا درد، دردمند حالت۔ الحَزَازَة جمع حَزَازات: غصہ وغیرہ سے دل میں درد۔ الحَزّاز و الحُزّاز: دل یا سینہ میں چبھ کر درد کرنے والی چیز۔ حَوَازُّ (واحد حازّة) القلبِ: دل کو دکھ پہنچانے والے امور۔

۳۔ حَزَّ و اَحَزَّ علی کَرَمِ فلان: سے سخاوت میں بڑھ جانا۔

۴۔ حَازَّ مُحَازَّةً و حِزَازًا ہ: کی خوب جانچ پڑتال کرنا، اچھی طرح سے تلاش و جستجو کرنا۔

۵۔ الحَزّ (مص): وقت، غیر مہذب کلام کرنے والا۔ الحَزَّة: گھڑی (وقت)۔ کہا جاتا ہے: أَیَّ حَزَّةٍ اتیتنی قضیتُ حاجتَك: جس وقت (یا جس گھڑی) تم میرے پاس آئے میں نے تمہاری حاجت پوری کی۔ المِحَزّ جمع مَحَازّ: غیر مہذب کلام والا۔ الحَزیز جمع حُزَز و حُزّان و حِزّان و أَحِزّة: سخت عمل کرنے والا آدمی، تیز ہانکنے والا آدمی۔ الحَزَاز: سر کی بھوسی (طب): داد (عوامی زبان میں) جب کہ فصیح زبان میں القُوباء ہے۔ (ن) چٹانوں، دیواروں، درختوں کی چھالوں اور مٹی پر اگنے والی روئیدگی، جو موسمی تغیرات اور پالے سے متاثر نہیں ہوتی، سفید یا سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ الحَزَازَة جمع حَزَازات: کلام میں کج روی۔ بمعنی الحَزاز۔ ثلاثیةُ الحَزّات (ن): پیلے سرخ خاردار پھولوں کا خوبصورت پودہ۔ الحَزَازِیّ: سخت عمل کرنے والا، تیز ہانکنے والا۔

○ حَزَّ ۔ حَزًّا فی: میں دندانے بنانا، نشان لگانا، کو کاٹنا، تراشنا، کھودنا، کندہ کرنا، میں گہرا شگاف بنانا۔ حَزَّزَ و اَحْتَزَّ: بمعنی حَزَّ۔ حَزٌّ جمع حُزُوز: کاٹ، تراش، درز، شگاف، دندانہ، موکھا، نشان، کھانچہ، صحیح وقت، عین وقت۔ حَزَّة: بمعنی: حَزّ: نیز وقت تکلیف دہ صورت، ناگوار یا خطرناک موقع، حالت، کیفیت۔ حَزَاز: سر کی بھوسی یا خشکی، خارش، داد کی بیماری، جلدی مرض، کھجلی۔ حَزَازَة: نفرت، بغض، عناد، کینہ، عداوت۔ مَحَزّ: کھانچہ، دندانہ، موکھا، شگاف، لکڑی وغیرہ پر لگایا جانے والا نشان۔ أَصَابَ المَحَزَّ: صحیح حل حاصل کرنا، ٹھیک بات کرنا، پتے کی کہنا، (کسی کام میں) کامیاب ہونا، مطلوبہ اثر کرنا، تکلیف دہ اثر کرنا۔

حزا: حَزَأَ ۔ حَزْءًا السرابُ الشخصَ: کو سراب کا نمایاں کرنا۔ — الابلَ: اونٹوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ اِحْزَوْزَأَتِ الابلُ: اونٹوں کا اکٹھا ہونا۔ — الطائرُ: پرندے کا پر سمیٹ کر انڈوں سے الگ ہونا۔

حزب: ا۔ حَزَبَ ۔ حَزْبًا ہ الویلُ والغمُّ: کو غم و مصیبت کا پہنچنا یا اس پر سخت ہونا۔ الحَازِب جمع حَوَازِب و الحَزِیب جمع حُزُب و حُزُب: سخت امر۔ آپ کہتے ہیں: نزلت به حوازبُ الخُطُوب: اس پر سخت مصیبتیں گریں (آئیں)۔ هذا امرٌ حَزِبٌ: یہ دشوار امر ہے۔ الحُزَابَة: الحَزْب کا اسم۔

۲۔ حَزَّبَ ۔ حَزْبًا القرآنَ: قرآن کے حصے مقرر کرنا۔ حَزَّبَ القومَ: لوگوں کے گروہ گروہ بنا کر جمع کرنا۔ حَازَبَ ہ: کی پارٹی میں داخل ہونا، کی مدد کرنا، کو قوت پہنچانا۔ تَحَزَّبَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا، طبقے بننا، گروہ بننا۔ الحِزب جمع اَحْزَاب: گروہ، پارٹی، جتھا، ایسے لوگ جن کے دل اور اعمال ایک جیسے ہوں لیکن آپس میں نہ ملے ہوں، کسی شخص کی فوج اور ہم خیال ساتھی۔ قرآن مجید وغیرہ کا ایک حصہ۔

۳۔ الحِزْب جمع اَحْزَاب: ہتھیار، حصہ۔ الحَزَابی و الحَزَابِیَة من الرجال: گٹھیلے بدن والا، پستہ قد آدمی۔

۴۔ الحَیزَبُون و الحَیزَبُور: بڑھیا۔

○ حَزَبَ ۔ حَزْبًا ہ: پر پڑنا، واقع ہونا، نازل ہونا، گرنا۔ حزب الامرُ: معاملہ سنگین ہوگیا۔ حَزَّبَ ہ: لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ —: پارٹی بنانا، تشکیل دینا۔ حَازَبَ ہ: کی حمایت کرنا، کا ساتھ دینا، کی طرفداری کرنا، جانب داری کرنا، کا حامی، حمایتی یا پیرو ہونا، سے وابستہ ہونا، کا طرف دار یا ہوا خواہ ہونا۔ تَحَزَّبَ: (لڑائی جھگڑے میں) کسی ایک فریق کا ساتھ دینا، طرف داری کرنا، جانبداری کرنا، پارٹی بنانا، کوئی مشترک مقصد حاصل کرنے کے لئے مل کر کام کرنا، کسی مشترکہ غرض کے لئے متحد ہونا۔ حِزْب جمع اَحْزَاب: گروہ، جتھا، (سیاسی) پارٹی، ٹولی، قرآن مجید کا ۶۰ واں حصہ۔ هو من اَحْزَابِه: وہ اس کی ٹولی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اسی قسم کا ہے۔ حِزْبِیّ: پارٹی کا، پارٹی کے متعلق، فسادی، مفسد، فتنہ انگیز، ہنگامہ پرداز سرکش، متمرد۔ حِزْبِیَّة: پارٹی کی سرگرمیاں، مساعی، کورانہ حمایت، بے جا حمایت، طرفداری، جانب داری، پارٹی بازی، مخالفت۔ حَیزَبُون: بڑھیا، چڑیل، ڈائن۔ تَحَزُّب: جتھابندی، پارٹی بازی، گروہ بندی۔ حازِب۔ حَزَبَهٗ حَازِبٌ: وہ ایک افسوسناک حادثہ سے دوچار ہوا۔ مُتَحَزِّب: طرف دار، حمایتی، حامی، جانب دارانہ، جانب دار، متعصب، متعصبانہ، پکا حامی، کٹر۔

حزر: ا۔ حَزَرَ ۔ حَزْرًا و مَحْزِرَةً الشیءَ: کا اندازہ کرنا، تخمینہ لگانا۔ کہا جاتا ہے: حَزَرَ قدومَه یومَ کذا: اس نے اس کے آنے کا فلاں دن اندازہ کیا۔ الحَزُّوْرَة: چیستان، معمہ، پہیلی، یہ عامی زبان کا لفظ ہے فصیح عربی میں الأُحْجِیَّة ہے۔

۲۔ حَزَرَ ۔ و حَزُرَ ۔ حَزْرًا و حُزُورًا النبیذُ او

اللبنُ: نبیذ یا دودھ کا ترش ہونا۔ صفت: حازِرٌ۔
الحازِرۃ: حازر کا مؤنث: ترش۔
۳- الحزوّر و الحزوَّر جمع حزاوِرۃ: طاقت ور لڑکا۔ الحزرۃ جمع حزرات و الحزیرۃ من کلّ شیءٍ: ہر چیز کا عمدہ حصہ۔ الحازِرۃ: مضبوط اور عمدہ اونٹنی۔ المحزوْر: غضبناک۔
۴- حزیران: کسی سال کا چھٹا مہینہ: ماہ جون۔
☆ حزَرَ ۔ حزرًا و محزرۃً ہ: کا اندازہ کرنا، (محصول وغیرہ)، تشخیص کرنا (قیمت) تشخیص کرنا، آنکنا، (قیمت کا) اندازہ کرنا، کا ابتدائی تخمینہ بنانا، کا قیاس لگانا، کو انکل سے کہنا۔ حزْر: اندازہ، تشخیص (محصول وغیرہ اور قیمت کی) انکل، قیاس، قیاس آرائی۔ محزرۃ: بمعنی حزْر۔
حزف: حزَفَ القومُ للقوم: قوم کا دوسری قوم سے لڑائی کے لئے تیار ہونا۔ ـــ المتاعَ: سامان کس کر باندھنا۔ ـــ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔
حزق: ۱- حزَقَ ۔ حزقًا الوترَ او الرباطَ: تانت یا رسی کو کس کر باندھنا، باندھنا۔ ـــ الشیءَ: کو دبا کر نچوڑنا۔ ـــ الحمارُ: گدھے کا گوز کرنا۔ أحزقَ ہ: کو روکنا، منع کرنا۔ تحزّقَ: سکڑنا، اکٹھا ہونا۔
الحِزقُ و الحازِقۃُ و الحزاقۃ و الحزیقۃ (حزیقۃ کی جمع حزائق و حزیق و حُزُق ہے): آدمیوں وغیرہ کی جماعت۔ الحِزقۃ: انسانوں وغیرہ کی جماعت، ہر شے کا ٹکڑا۔ الحزُق و الحُزُق و الحزُقّۃ والحزقّۃ والأُحزُقّۃ: پست قدم جو چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلے۔ ـــ والمُحزّق: کنجوس، بدخلق۔ الحزاوُقۃ (طب) ہچکی (عامی زبان میں) اس کے لئے صحیح لفظ فواق ہے۔ المحزوق من ابریق ونحوہ: تنگ منہ کا لوٹا، صراحی وغیرہ۔
○ حُزُقّانی: غصیلا، تندمزاج، تیز مزاج۔
○ حزوقۃ و حازوقۃ: ہچکی۔
حزک: حزَکَ ۔ حزکًا ہ: کو لپیٹنا، دبانا۔ ـــ ہ بالحبل: کو رسی سے باندھنا، کا گٹھا بنانا۔ احتزکَ بالثوب: کپڑے سے کمر کسنا۔
حزل: احزألّ الشیءُ: اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ ـــ القلبُ: دل کا ڈر کی وجہ سے سکڑنا۔ ـــ الجبلُ: پہاڑ کا سراب سے اونچا ہونا۔ ـــ البعیرُ فی السیر: اونٹ کا چلنے میں بلند ہونا۔ الحوزَل و الحوزلۃ: کوتاہ قد، ٹھگنا۔
حزم: ۱- حزُمَ ۔ حزمًا و حزامۃً: پکے ارادے والا اور مستقل مزاج ہونا صفت: حازِم جمع حزَمۃ و حُزَّم و أحزام و حزیم جمع حُزَماء۔ حزَمَ ۔ حزمًا ہ: کو باندھنا۔ ـــ الفرسَ: گھوڑے پر تنگ کسنا۔ حزّمَ ہ: کو باندھنا۔ أحزمَ الفرسَ: گھوڑے کے لئے تنگ بنانا۔ تحزّمَ و احتزمَ: رسی وغیرہ سے کمر باندھنا، کسنا۔ کہا جاتا ہے: تحزّمَ فی الامر: اس نے معاملہ میں دانائی اور ہوشیاری سے کام لینا۔ الحِزام جمع حُزُم و الحِزامۃ جمع حزائم و المِحزم و المِحزمۃ: جانور کا تنگ، زنانہ زیر جامہ، چولی، انگیا، سینہ بند۔ کہا جاتا ہے: اخذ حِزامَ الطریق: اس نے بیچ راستہ کو پکڑا اور اسی پر چلا۔ الحُزمۃ: گٹھا (لکڑی وغیرہ کا)۔
الحزیم جمع حُزُم و احزِمۃ: تنگ کسنے کی جگہ، سینہ کا وسط، کہا جاتا ہے: شددت لھذا الامر حزیمی: میں اس کام کے لئے کمر بستہ ہوا۔ الأحزم: چوڑے سینے والا۔ الحیزوم جمع حیازم و حیازیم: سینے کا وسط۔ شدُّ الحیازم: صبر سے کنایہ ہے۔
المحزم من الدابۃ: جانور کی وہ جگہ جہاں تنگ کسا جاتا ہے۔
۲- حزِمَ ۔ حزمًا: سینہ میں کسی چیز کا پھنس جانا۔ الحزم: سینہ کی تنگی۔
۳- احزوْزمَ احزیزامًا الشیءُ: چیز کا اکٹھا ہونا۔ الاحزام: پارٹیاں (احزاب سے وزن اور معنی میں پوری طرح مطابق)
۴- احزوْزمَ احزیزامًا المکانُ: جگہ کا سخت و بلند ہونا۔ الحزم جمع حزُوم: سخت اور اونچی زمین۔ الحیزوم جمع حیازم و حیازیم: بلند زمین۔
۵- الحزَم: خوراک کا مشکل سے ہضم ہونا۔ الأحزم والأحزَم: موٹے پیٹ اور کولھوں والا۔ الحُزُمّۃ: ٹھگنا، کوتاہ قد۔
☆ حزَمَ ۔ حزمًا ہ: کو باندھنا، کا پلندا بنانا، کی گٹھری باندھنا، لپیٹنا، کو پیک کرنا، کو گانٹھ، پلندے یا گٹھری میں باندھنا، رکھنا، جانور، کو تنگ باندھنا۔ حزمَ امرہ: معاملات کو مضبوطی سے ہاتھ میں لینا۔ حزُمَ ۔ حزمًا وحزامۃً وحزُومۃً: باعزم ہونا، مستقل مزاج ہونا، پکا ہونا، مضبوط دل والا ہونا، نڈر ہونا، بے خوف ہونا، دلیر ہونا، بہادر ہونا۔ حزّمَ ہ: کو پٹی یا پٹکا باندھنا۔ تحزّمَ و احتزمَ: کمر بستہ ہونا، پوری طرح تیار ہونا، پٹی باندھنا۔ حزْم: گٹھری باندھنا، بنڈل بنانا، پوٹ باندھنا، اسباب باندھنا، جکڑنا، کسنا، تہہ کرنا، تہہ کر کے رکھنا، صندوق یا ڈبہ میں بھرنا، خوف کرنا، ڈھکنا، عزم، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ارادے کی پختگی، دلیری، پائداری، استقلال، ہمت، طاقت، عقلمندی، دانشمندی، معاملہ فہمی، دور اندیشی، فرزانگی، عقل شعور، سمجھ، مصلحت بینی، ہوشیاری، دانائی، عاقبت اندیشی۔ حُزمۃ جمع حُزَم: لپٹی یا بندھی ہوئی چیز، گٹھری، گانٹھ، پلندا، بنڈل، ایندھن کا گٹھا، لکڑیوں کا گٹھا، لکڑیوں کے گٹھے جو جنگ میں مورچوں کو اونچا کرنے، کھائیوں کو بھرنے میں کام آتے ہیں۔ کرنوں کی شعاع، تابانی کی شعاع، (جڑی بوٹیوں وغیرہ کا) گچھا۔ پارسل، پیکج، مٹھا، گٹھا، پوٹلی۔ حِزام جمع حِزامات و احزِمۃ و حُزُم: پٹی، تنگ، پٹکا، کمر بند، کمر پٹی، تلوار کی پٹی۔ حزام الامن: حفاظتی پٹی۔ احزم: زیادہ باعزم، زیادہ معاملہ فہم، زیادہ مدبر۔ حازم جمع حزَمۃ و حزیم جمع حُزماء: باعزم، معاملہ فہم، پھرتیلا، چست و چالاک، سرگرم، زور دار، ہوشیار، محتاط، موقع محل دیکھ کر بات کہنے والا، چوکس، عاقل، دانا، زیرک، مصلحت اندیش۔
حزن: ۱- حزَنَ ۔ حزنًا ہ: کو غمگین کرنا، آزردہ خاطر کرنا۔ حزِنَ ۔ حزنًا لہ و علیہ: کی وجہ سے / کے لئے یا پر غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا۔ صفت: حزین جمع حُزناء و حِزان و حزانی و حزِن و حزُن و محزون و محزَن و محزان و حزنان۔ حزّنَ الرجلَ: کو غمگین کرنا، آزردہ خاطر کرنا۔ ـــ القاریءُ: قاری کا باریک آواز سے پڑھنا۔ أحزنَ الرجلَ: کو غمگین کرنا۔ تحزّنَ علیہ و لامرہ: پر دردمند ہونا۔ ـــ و تحازنَ و احتزنَ: غمگین ہونا، آزردہ خاطر ہونا، رنجیدہ ہونا۔ الحُزْن و الحزَن جمع أحزان: غم، رنج۔ الحُزَن: مصائب، سختیاں۔ الحزانۃ: بال بچے جن کے اہتمام میں انسان فکر مند رہتا ہے۔ مالکُ الحزین (جسے البلشون بھی کہا جاتا ہے)۔ (ح): بگلا، بوتی مار۔
۲- حزُنَ ۔ حزُونۃً المکانُ: جگہ کا سخت ہونا۔ أحزنَ: سخت زمین پر چلنا، سخت زمین ہونا۔ الحزْن جمع حُزُن و حُزُون: سخت اور اونچی زمین۔ الحُزُنۃ جمع حُزَن: سخت پہاڑ۔ الحزنبل: سخت پہاڑ۔ الحُزنۃ من الأرض: سخت زمین۔ الحُزونۃ: زمین کی سختی۔
۳- الحزنبل (ن): کڑوے ذائقہ کا پودا۔
☆ حزِنَ ۔ حُزنًا و حزَنًا علی: پر رنجیدہ ہونا، ملول ہونا، غم کرنا، رونا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، سوگ منانا، افسوس کرنا، کو رونا، کا ماتم کرنا۔ حُزن جمع احزان:

غم، رنج، افسوس، ملال، الم، سوگ، ماتم، دکھ، درد، تکلیف۔ حَزْن جمع حُزُون: ناہموار، سنگلاخ اور سخت زمین۔ حَزِن: غمگین، رنجیدہ، غم زدہ، غمناک، ماتم کناں، ملول، متاسف۔ حَزِین جمع حُزَناء و حِزَان و حَزَانَی: غمگین، رنجیدہ، ماتم کناں، متاسف، غم زدہ، غمناک۔ الجمعة الحزینة: (عیسائیت میں) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصلیب منانے والے ایسٹر (عید الفصح) سے قبل واقع ہونے والا جمعہ کا دن جسے انگریزی میں Good Friday کہا جاتا ہے۔ حَزْنَان: بہت غمگین، بہت رنجیدہ، بہت غمزدہ، بہت متاسف، بہت پریشان، ماتم کناں۔ حَزَائِنِی (حَزَائِنِی): غمگین، ماتم کناں، غمناک، غم زدہ، اداس، افسردہ خاطر ملول، موت کے متعلق، ماتمی، تجہیز وتکفین کے متعلق، قماش حزائنی۔ (ماتمی لباس کے لئے مخصوص) کپڑا۔ تَحَزُّن: غم، ماتم کنندہ کاروپہ۔ مَحْزُون: غم زدہ، رنجیدہ، غمگین، دکھی۔ مُحْزِن: غمگین، رنجیدہ، تکلیف دہ، المناک، درد انگیز، اداس کن، آزردہ کن، ملول کن، المیہ سے متعلق، المناک، حزنیہ، پرسوز، دلگداز۔ مُحْزِنات: دردناک یا تکلیف دہ باتیں، واقعات امور یا چیزیں۔ قِصَّةٌ تَمْثِیلِیَّةٌ مُحْزِنَة یا رِوَایَةٌ مُحْزِنَة: ٹریجڈی۔ المیہ، المناک واقعہ، المیہ نظم یا نثر، المیہ ناٹک، مصیبت، آفت۔

حَزَا ـُ حَزْوًا الشیءَ: کا اندازہ کرنا، تخمینہ لگانا۔ ـــ الطیرَ: شگون لینے کے لئے پرندہ کو اڑانا۔ حَزَیَ ـِ حَزْیًا و تَحَزَّی: پیشین گوئی کرنا۔ ـــ الشیءَ: کا اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا۔ أَحْزَی إِحْزَاءً بالشیءِ: کو جاننا۔ الحَازِی (فا): قیافہ شناس۔ ہم کہتے ہیں: عَلَی الحازِی ھبطتَ: تو واقف کار اور باخبر کے پاس پہنچا۔

۲۔ حَزَا ـُ حَزْوًا و حَزَّی السرابُ الشیءَ: سراب کا چیز کو فضاء میں نمایاں کرنا، ظاہر کرنا۔ أَحْزَی إِحْزَاءً الشیءُ: بلند و نمایاں ہونا۔

۳۔ الحَزَی و الحَزَاء: واحد حَزَاۃ و حَزَاءَة (ن): ایک نبات کا نام۔

حزی: دیکھو حزا (اوپر)۔

حسّ۔ ۱۔ حَسَّ ـُ حَسًّا ہ: کو قتل کرنا، جڑ سے اکھیڑنا، کی بیخ کنی کرنا۔ اِحْتَسَّ الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ اِنْحَسَّتْ اسنانُه: کے دانتوں کا اکھڑ جانا، گر جانا، ٹوٹ جانا۔ الحَسِیس: مقتول۔

۲۔ حَسَّ ـُ حَسًّا الدابّةَ: جانور کو کھریرا کرنا۔ المِحَسَّة: کھریرا۔

۳۔ حَسَّ ـُ حَسًّا النارَ: پختگی کے لئے، کسی چیز پر آگ ڈالنا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو انگاروں پر رکھنا۔

۴۔ حَسَّ ـِ حَسًّا و حِسًّا لفلان: پر دل دکھنا، کے لئے نرم دل ہونا۔ ـــ ہُ: کو معلوم کرانا۔

۵۔ حَسَّ ـِ حَسًّا الشیءَ و بالشیءِ: کو محسوس کرنا، معلوم کرنا۔ ـــ حَسًّا و حِسًّا بالخبر: خبر کا یقین کرنا۔ اَحَسَّ الشیءَ و بالشیءِ: کو جاننا، محسوس کرنا، کا ادراک کرنا۔ کہا جاتا ہے: حَسَّ و اَحَسَّ منه خبرًا: اس نے اس سے خبر معلوم کی۔ تَحَسَّسَ: سننا، دیکھنا۔ ـــ الخبرَ: خبر معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ ـــ الشیءَ: کا حواس سے پتہ لگانا۔ ـــ منه: کی خبر دریافت کرنا۔ اِحْتَسَّ الشیءَ: کو چھونا۔ الحِسّ (مص): حرکت، ہلکی آواز (کہا جاتا ہے: ما سمعت له حِسًّا) میں نے اس کی آہٹ یا ہلکی آواز نہیں سنی)۔ ادراک، آہٹ، بچہ کی ولادت کے بعد کا درد جو زچہ کو ہوتا ہے۔ حِسُّ الحُمَّی: تپ کے شروع کا احساس۔ الحِسِّیّ: حس ظاہری سے ادراک کی ہوئی شئے، عقلی کی ضد۔ المذهب الحِسّی او الحِسِّیَّة: یہ نظریہ کے ہمارے تصورات کا ماخذ ہمارے خارجی حسیات ہیں۔ الحَسَّة و الحِسَّة: حالت۔ کہا جاتا ہے: ھو فی حَسَّةِ سوءٍ: وہ ابتر حال میں ہے۔ حِسَاسُ الحُمَّی: بخار کے شروع ہونے کا احساس۔ الحَسِیس: ہلکی آواز، حرکت آہٹ۔ الحَاسَّة جمع حَوَاسّ: الحاس کا مونث، دریافت کرنے کی نفسیاتی قوت۔ الحواسّ الخمس: ادراک کی پانچ قوتیں، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ حَسَّاس: کلچ (clutch)۔ حَسَاسَاتُ الحیا: ناپسندیدہ یا شرمندگی کی باعث چیزوں کی وجہ سے انقباضی کیفیت کا احساس و شعور۔

۶۔ حَسَّ ـُ حَسًّا البردُ الزرعَ: سردی (پالے) کا کھیتی کو مار جانا، جلا دینا۔ کہا جاتا ہے: البرد مَحَسَّةٌ للنبات: سردی (پالا) پودوں کو جلا ڈالنے والی ہے۔ حَوَاس الارض الخمس: زمین کی پانچ آفتیں: سردی، اولے، آندھی، ٹڈی، مویشی۔ کہا جاتا ہے: مرّت بالقوم حواسّ: قوم پر سخت سال گزرے۔ الحَسُوس: سخت قحط کا سال۔ الحُسَاس: نحوست، بدخلقی۔ المَحْسُوس: منحوس، نامبارک۔ ارضٌ محسوسة: ٹڈی یا اولوں سے تباہ شدہ زمین۔

۷۔ المَحَسّ: حلیہ۔ الحُسَاس: بدخلقی۔ ـــ واحد حُسَاسة: پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے (ح): ایک قسم کی چھوٹی مچھلی جو سکھائی جاتی ہے۔

۸۔ حَسْحَسَ له: کے لئے دردمند ہونا، درد محسوس کرنا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو انگاروں پر رکھ کر الٹ پلٹ کرنا۔ تَحَسْحَسَ للقیام: اٹھنے کے لئے حرکت کرنا۔ ـــ ت اوبارُ الابل: اونٹوں کے بالوں کا بکھرنا اور پھیلنا۔

○ حَسَّ ـُ حَسًّا ہ: جانور کو کھریرا کرنا، ملنا، مالش کرنا، (کسی چیز وغیرہ) کو محسوس کرنا، معلوم کرنا۔ حَسَّ ـِ حَسًّا ل: کے لئے افسوس، ہمدردی یا ترس محسوس کرنا، سے ہمدردی کرنا، کے درد میں شریک ہونا، سے اظہار ہمدردی کرنا۔ حَسَّسَ: محسوس کرنا، ٹٹولنا، کی ٹوہ لگانا، کو ٹٹول کر معلوم کرنا۔ اَحَسَّ ہ/ب: کو حواس سے معلوم کرنا، کا ادراک کرنا، معلوم کرنا، کا تجربہ کرنا، آزمانا۔ ـــ ہ/ب: کو محسوس کرنا، دیکھنا، کا دھیان کرنا۔ ـــ ہ: (آواز، شور وغیرہ) سننا۔ ـــ ہ: کی طرف توجہ کرنا۔ تَحَسَّسَ ہ: کو ٹوہنا، ٹٹولنا، کے لئے ٹامک ٹوئیاں مارنا، کو چھونا، انگلی سے چھونا، کو ہاتھ لگانا، پر ہاتھ پھیرنا۔ ـــ: ادھر ادھر ٹٹولنا، ٹامک ٹوئیاں مارنا، تلاش کرنا (ہاتھوں، پاؤں چھڑی وغیرہ سے)۔ ـــ من: سے معلومات مانگنا، کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا۔ ـــ ہ/ب: کا تجربہ کرنا، کو آزمانا، محسوس کرنا، حواس سے معلوم کرنا، کا ادراک کرنا۔ ـــ ب: کو محسوس کرنا، سے سخت متاثر ہونا۔ حَسّ: احساس، ادراک، خیال، جذبہ، جذباتیت۔ حِسّ: حسیاتی ادراک، احساس، جذبہ، خیال، حس، حاسہ، آواز، شور۔ حِسّی: حسیاتی، حواسی، حسی، محسوس، قابل ادراک، واضح، صریح۔ حِسِّیّات: احساسات۔ حسیس: کمزور آواز۔ حَسَّاس: حساس، سریع التاثر، معقول، ہوشمند، اثر پذیر، شہوانی (مسرت)، حَسَّاسة: حسی عضو۔ حَسَّاسِیّ: الثاثر کرنے والا، ناموافق، الرجی والا۔ اَمراض حَسَّاسِیّة: الرجی والی بیماریاں، الٹے اثر والی بیماریاں۔ حَسَّاسِیة: اثر پذیری، احساس، حسی ادراک کا حاسہ، نفس پرستی۔ مرض الحسّاسِیّة: الرجی (allergy)۔ مِحَسّة: کھریرا۔ اِحْسَاس جمع احساسات و احاسیس: احساس۔ ـــ ب: کا احساس، ادراک، اثر پذیری، جمع احساسات: احساسات، جذبات۔ احساس بالنور: روشنی سے اثر پذیری۔ شدیدُ الإحساس: بہت حساس۔ إِحْسَاس مُشْتَرَك: احساس ہم آہنگی، اتفاق، اتحاد، کامل اتفاق۔ قِلّةُ الإحساس: بے حسی، بے

ذوقی، افسردگی، کند ذہنی۔ الطائفة الاحساسية: مصوری یا بیان میں مجموعی اثر پر زور دینے والے نہ کہ تفصیلات پر۔ اثریت والے فن کار جو اثریت کے انداز میں مصوری کریں اور رنگ اور روشنی کے اثرات استعمال کریں۔ مَحْسُوس: محسوس، قابل ادراک، نمایاں، واضح، صریح، کافی یا نمایاں (نقصان)۔ المحسوس: حواس خمسہ کے ذریعہ قابل ادراک ظہور، شہادت۔ المحسوسات: حواس خمسہ کے ذریعہ قابل ادراک اشیاء۔

حسب: ۱۔ حَسَبَ ـُ حَسْبًا و حِسَابًا و حِسْبَانًا و حُسْبَانًا و حِسْبَةً و حِسَابَةً ہ: کو گننا، شمار کرنا۔ حَاسَبَ مُحَاسَبَةً و حِسَابًا ہ: کا حساب لینا، محاسبہ کرنا۔ تَحَاسَبَا: ایک دوسرے کے حساب کی جانچ کرنا، ایک دوسرے کا محاسبہ کرنا، آپس کا حساب صاف کرنا۔ اِحْتَسَبَ الامرَ: کو شمار کرنا، گمان کرنا۔ ـ عند اللّٰہ خیراً: خیر آگے بھیجنا، کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید لگانا۔ الحَسَبُ: تعداد، اندازہ، (کہا جاتا ہے: هذا بحسب ذاك: یہ اس کے موافق ہے۔ اعملْ على حسب مَا امرتُكَ: میرے حکم کے مطابق عمل کرو۔ حسبما ذُكر: موافق اس کے جس کا ذکر ہوا) شمار کیا ہوا۔ الحِساب (مص): شمار۔ (کہا جاتا ہے: يَرْزُقُ اللّٰہ من يشاء بغير حِساب: اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کسی تنگی یا کمی کے بغیر رزق پہنچاتا ہے)۔ لوگوں کی بڑی تعداد (کہا جاتا ہے: اتانی حسابٌ من الناس بمعنی جاء نی عدد منهم: میرے پاس لوگوں کی ایک بڑی تعداد آئی۔ حسابُ الجُمَّل: حروف ابجد کا حساب۔ یومُ الحساب: قیامت کا دن۔ الحاسِب جمع حَسَبَة (فا): حساب داں۔ الحِسَابِیّ: حساب داں۔ الحِسْبَة جمع حِسَب: اجر و ثواب۔ الحَسِيب: جانچ کنندہ۔ کہا جاتا ہے: كفى بالله حسيبًا: محاسبہ کے لئے اللہ کافی ہے۔ (اعراب: کفی فعل ماضی باللہ۔ با حرف جر زائد۔ اللہ تعالیٰ کفی کا فاعل۔ حسيبًا: تمیز۔ الحُسْبَان: حساب۔ مُحْتَسِبُ البلد: اوزان وغیرہ کی جانچ پڑتال کرنے پر حاکم کی طرف سے مقرر شخص۔

۲۔ حَسِبَ ـِ حِسْبَانًا و مَحْسَبَةً و مَحْسِبَةً ہ: کو گمان کرنا، خیال کرنا۔ اِحْتَسَبَ الامرَ: کو گمان کرنا۔

۳۔ حَسُبَ ـُ حَسَبًا و حَسَابَةً: شریف الاصل ہونا، فیاض ہونا صفت۔ حسیب جمع حُسَبَا: الحَسَب جمع اَحْساب: خاندانی شرافت، آباء و اجداد کے محاسن و مفاخر۔ الحَسِيب: خاندانی شرافت رکھنے والا۔

۴۔ حَسَّبَ و اَحْسَبَ ہ: کو اس قدر کھلانا یا دینا کہ کھانے یا لینے والا کہے بس (حَسْبِی، کفانی) کہا جاتا ہے: اعطى فاحسب: اس نے بہت دیا حتی کہ اسے کہا گیا بس۔ تَحَسَّبَ: قناعت کرنا۔ اِحْتَسَبَ بہ: پر قناعت کرنا (کہا جاتا ہے: فلانٌ لا يُحْتَسب بہ: فلاں شخص ناقابل اعتبار ہے اور کسی شمار میں نہیں۔ فلانٌ استعطانی فاحتسبتُہ: فلاں شخص نے مجھ سے بخشش چاہی تو میں نے اسے خوب دیا اور کافی دیا)۔ ـ عنہ: سے رک جانا۔ الحَسْب: کافی ہونا، کفایت کرنا۔ کہا جاتا ہے: حسبُك درهمٌ: تمہیں ایک درہم کافی ہے (ابتداء میں آنے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ کاف مضاف الیہ ہے۔ کبھی اس پر باء کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: بحسبك درهم: تمہیں ایک درہم کافی ہے۔ کہا جاتا ہے: هذا رجلٌ حسبُك من رجل: حسب یہاں رجل کی صفت ہے): تمہارے لئے یہ آدمی اس آدمی سے کافی ہے۔ زيدٌ صديقي فحسبي: زید میرا دوست ہے اور وہ مجھے کافی ہے۔ هذا زيدٌ حَسْبُكَ: یہ زید تمہارے لئے کافی ہے۔ الحِساب: کافی۔ کہا جاتا ہے: اعطاه عطاءً حِسَابًا: اس نے اس کو کافی دیا۔

۵۔ حَسَّبَ المیتَ: میت کو کفنا کر دفنانا یا پتھروں میں دفن کرنا۔ الحُسْبَة (مص): میت کی تکفین کے بعد تدفین، پتھروں میں تدفین۔

۶۔ حَسَّبَ ہ: کو تکیہ دینا۔ تَحَسَّبَ: تکیہ لگانا۔ الحُسْبَانَة و المِحْسَبَة: چھوٹا تکیہ۔

۷۔ تَحَسَّبَ الخبرَ: خبر دریافت کرنا۔ ـ ہ: کو پہچاننا، ذہن میں رکھنا۔ اِحْتَسَبَ ما عندہ: کو آزمانا۔

۸۔ اِحْتَسَبَ علیہ الأمرَ: کو ناپسندیدہ بات سے روکنا۔

۹۔ احتسب ولداً لہ: بڑی عمر کے بچے کو کھو دینا، اگر چھوٹی عمر کا بچہ مر جائے تو کہا جاتا ہے: افترطہ۔

۱۰۔ الحُسْبَان واحد حُسْبَانَة: چھوٹے تیر۔ الحُسْبَانَة: کڑک، بدلی، اولہ۔

☆ حَسَبَ ـُ حَسْبًا و حِسَابًا و حِسْبَانًا و حُسْبَانًا: حساب لگانا، گننا، شمار کرنا، حساب کرنا، گنتی کرنا، اندازہ کرنا یا لگانا، تخمین کرنا، پیش اندازہ کرنا۔ ـ ہ علی: کو کے نام درج کرنا یا کے نام ڈالنا، یا کے حساب میں درج کرنا۔ ـ ہ ل: کسی رقم کا اندراج کسی کے حساب میں بطور ادا شدہ لکھنا۔ حسب حسابه: کسی چیز یا شخص کا خیال کرنا، یا حساب میں رکھنا، سے حساب چکانا، پر انحصار کرنا، بھروسہ کرنا۔ حسب حسابًا ل: بمعنی سابق نیز، کسی شخص یا چیز کو اہمیت دینا۔ حسب الف حساب ل: کے بارے میں ہزاروں اندیشے رکھنا۔ حَسِبَ ـِ حِسْبانًا و مَحْسَبَةً و مَحْسِبَةً ہ ہ: کو کوئی خیال کرنا، سمجھنا۔ ـ: خیال کرنا، یقین کرنا، فرض کرنا۔ ـ ہ من: کو سے متعلق خیال کرنا، سمجھنا، کو میں شمار کرنا۔ ـ فی ہ: کسی شخص میں کچھ دیکھنا۔ حَسُبَ ـُ حَسَبًا و حَسَابَةً: شریف الاصل ہونا، خاندانی ہونا، بہت محترم ہونا، کا قدر کیا جانا۔ حَاسَبَ ہ: سے حساب چکانا، صاف کرنا، سے بدلہ لینا، سے بدلہ چکانا، سے باز پرس کرنا، کا محاسبہ کرنا، مواخذہ کرنا، کو ذمہ دار قرار دینا، کو جواب دہ بنانا۔ حَاسَبَ علی نفسه: محتاط ہونا، چوکنا ہونا، چوکس ہونا۔ تَحَسَّبَ: محتاط ہونا، چوکس ہونا، چوکنا ہونا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ ـ ہ: کو جاننا چاہنا، کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ تَحَاسَبَ: باہمی حساب چکانا۔ اِحْتَسَبَ: کے ذمہ لکھنا، کھاتے میں جمع کرنا۔ ـ ہ/ب: کو خاطر میں لانا، اہمیت دینا، کی طرف توجہ کرنا، کی گنجائش رکھنا، کو مدنظر رکھنا، کے پیش نظر نرمی کرنا، سے حساب چکانا۔ ـ: نیکی آگے بھیج کر اللہ تعالیٰ سے آخرت میں انعام کی توقع کرنا۔ احتسب ولداً: بیٹے کا مر جانا۔ احتسب عند اللہ الشیءَ: آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی توقع میں کسی چیز کی قربانی دینا۔ ـ ہ علی: کے عوض کچھ رقم بطور اجرت لینا۔ ـ: خیال کرنا، یقین کرنا، فرض کرنا۔ ـ ہ ہ: کو غلطی سے کوئی کچھ بیٹھنا۔ ـ ب: پر قانع، مطمئن، راضی، صابر یا شاکر ہونا۔ ـ ہ علی: کو میں ناپسند کرنا، ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، میں پر اعتراض کرنا، میں کو مسترد کرنا۔ ـ علی: سے محاسبہ کرنا، باز پرس کرنا، مواخذہ کرنا، سے حساب مانگنا، سے کی توجہ طلب کرنا۔ حَسْبُكَ أن: یہ کہنا کافی ہے کہ، تم خوب جانتے ہو جب تم سنو کہ، تمہیں صرف...... کی ضرورت ہے۔ بحسبك مُقْنِعًا ان: تمہیں قائل کرنے کے لئے کہ...... یہ کافی ہوگا۔ و حَسْبُكَ بهذا كُلِّهِ شرًّا: لیکن یہ منفی پہلو اس قابل نہیں کہ انہیں مزید برداشت کیا جائے۔ فَحَسْبُ: صرف، زیادہ نہیں، اور بس اتنا ہی، یہی سب ہے، فقط۔ مجلس حَسْبِی جمع مَجَالِس

حسبة: وصیت کی تصدیق کی عدالت، سرپرستی کے متعلق عدالت۔ حَسَب جمع احساب: پیمانہ، حد، درجہ مقدار، رقم، قیمت، احترام، کسی کا بہت احترام، شریف نسل یا نسب۔ حَسَبَ و بِحَسَبِ و علی حَسَبِ: کے مطابق، کے حسب حال، کے مناسب، پر منحصر۔ حَسْبَمَا: کے مطابق، پر منحصر کہ کیونکہ، کی طرح۔ حسبما اِتَّفَقَ: اگر چہ اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی، جیسے ہوا یا ہو۔ حِسْبة: رقم، حسابی مسئلہ۔ حسیب: محترم، معزز، شریف، خاندانی، عالی النسب۔ کان فی الحُسبان: متوقع ہونا، مدنظر ہونا، کی گنجائش ہونا۔ کان فی الحُسْبان ان: اس کی توقع تھی کہ۔ حسبانی ان: مجھے توقع ہے کہ۔ حِسَابٌ گنتی، شمار، اندازہ، جانچ، پڑتال، دوراندیشی، احتیاط، غور، سوچ بچار جمع حسابات: بل، فہرست، بجٹ، خرچہ کی تفصیل، حساب حساب، بنک میں حساب۔ جمع حسابات: کھاتہ نویسی (book keeping)۔ علم الحساب: حساب (کا علم)۔ حساب التفاضل: احصاء تفریقی (differential calculus)۔ حساب التکامل: حساب کلیات integral calculus۔ کان فی حسابه: اسے اس کی توقع تھی، اس نے اس سے حساب چکایا، وہ اس کے لئے تیار تھا۔ عمل حسابًا له: کی طرف توجہ کرنا، سے حساب چکانا۔ الحسابُ الخِتامِی اور حساب نهائی: آخری حساب، حساب کی آخری تفصیل۔ دعاه اِلی الحساب: اس نے اس کا محاسبہ کیا، اس سے باز پرس کی، اس کا مواخذہ کیا۔ یوم الحساب: حساب کا دن، انصاف کا دن۔ اقامَ حسابًا ل: کو ادائیگی کے لئے، حساب پیش کرنا، بِلاحساب: بے حد، غیر محدود حد تک۔ من غیرِ حسابٍ: اندھا دھند، یونہی، بے سوچے سمجھے، دوراندیشی کے بغیر۔ لحسابِ فلان: کے ذمے، کے خرچ میں، کے مفاد کے خلاف۔ لَقِیَ سوءَ الحساب: اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، وہ ناگوار واقعہ سے دوچار ہوا۔ حِسَابٌ جارٍ: کرنٹ اکاؤنٹ۔ حسابات صندوق التوفیر: سیونگ بنک کے حساب Savigns bank accounts۔ حساب موقوف: بند حساب۔ حسابات دوبية: دوہرا کھاتہ۔ الحساب الشرقی: جولین کلینڈر۔ الحساب الغربی: جورجین کلینڈر۔ حسابی: حساب کا، حساب کے متعلق، ریاضی کا، ریاضی سے متعلق، شمار سے متعلق۔ مُحَاسَبة جمع مُحاسَبات: بے باقی، کھاتہ نویسی، ضمیر کا جائزہ۔ قسم المحاسبة: محکمہ اکاونٹ، دفتر کمپٹرولر، کلیرنگ ہاؤس۔ مَحْسُوب جمع محسوبون و محاسیب: متوسل، زیر نگرانی یا زیر حمایت شخص، چہیتا، منظور نظر، پسندیدہ، مرغوب۔ ۔علی: کا مطیع، تابعدار، فرمانبردار، تابع فرمان، معاون۔ حَاسِب: گننے والا، شمار کرنے والا، حساب دان، کمپیوٹر، کیلکولیٹر۔ مَحْسُوبية: عزت و احترام (کسی شخص کا)، امتیازی حیثیت، سرپرستی، منظور نظری، مرغوبیت، جانبداری، جنبہ داری، پاسداری۔ مُحَاسِب و مُحاسِبْجی: اکاؤنٹنٹ، بک کیپر، کمپٹرولر، آڈیٹر۔ مُحْتَسَب: نقصان، تکلیف، مصیبت وغیرہ جس کو جھیلنے کے بدلے کوئی شخص آخرت میں انعام کی توقع رکھے۔

حسد: حَسَدَ ـُ حَسَدًا و حَسَادَةً و حَسَّدَ فلانًا نعمتهُ و علی نعمته: کسی کی نعمت کے زوال اور اپنے لئے اس کے حصول کی تمنا کرنا یا آرزو رکھنا صفت: حَاسِد جمع حُسَّاد و حَسَدہ و حُسَّد۔ اُحْسَدَہ: کو حاسد پانا۔ تَحَاسَدا: ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ الحَسُود جمع حُسُد (مذکر و مؤنث کے لئے)، طبعی حاسد۔ الحَسَّاد: بہت حاسد۔ المَحْسَدَة: حسد کا باعث و سبب۔

☆ حَسَدَ ـُ حَسَدًا ہ علی/ہ: سے پر جلنا، حسد کرنا، خار کھانا، رشک کرنا۔ تَحَاسَدَ: ایک دوسرے سے حسد کرنا، جلنا، خار کھانا، ایک دوسرے پر رشک کرنا۔ حَسَد: حسد، خار، رشک۔ حاسد جمع حُسَّاد و حَسَد: حاسد، خار کھانے والا، رشک کرنے والا۔ حسد انگیز، جلنے والا۔ حَسُود جمع حُسُد: حاسد، حسد کرنے والا، جلنے والا۔ تَحَاسُدٌ: باہمی حسد۔ محسود: باعث رشک، بدنظری کا شکار۔

حسر: ۱۔ حَسَرَ ـِ حُسُورًا البصرُ: بینائی کا کمزور ہو جانا، نگاہ کا تھک جانا۔ ـــ الرجلُ او الدابَّةُ: آدمی یا جانور کا تھکنا۔ ـ الدابَّةَ: جانور کو چلا کر تھکانا۔ حَسِرَ ـَ حَسَرًا: تھکنا۔ أَحْسَرَ الدابَّةَ: جانور کو چلا کر تھکانا۔ اِسْتَحْسَرَ: تھکنا۔ الحَسِر: تھکانے والا۔ الحَسِیر جمع حَسْرَی: تھکا ماندہ کمزور، تھکانے والا۔ المَحْسُورُ البصر: تھکی ہوئی نگاہ والا۔

۲۔ حَسَرَ ـِ حَسْرًا الشیءَ: کو کھولنا۔ کہا جاتا ہے: حسر کمَّه عن ذراعه: اس نے اپنی آستین چڑھائی۔ حسرت الجاریةُ خِمارَها عن وجهها: لڑکی نے اپنی اوڑھنی چہرے سے اٹھائی صفت: حَاسِر جمع حُسَّر و حَوَاسِر۔ ـــ الغصنَ: ٹہنی کو چھیلنا۔ ـ الشیءُ: ظاہر ہونا۔ ـ الماءُ: پانی کا نیچے اتر جانا اور خشک ہو جانا۔ حَسَّرَ الطیرُ: پرندے کے پر جھڑنا۔ تَحَسَّرَتِ المرأةُ: عورت کا چہرہ کھول کر بیٹھنا۔ ـ الشَعَرُ او الریشُ: بالوں یا پروں کا گرنا۔ ـــ الطائرُ: پرندے کے پروں کا گرنا۔ اِنْحَسَرَ الشیءُ: ظاہر ہونا۔ ـ ت الطیرُ: پرندہ کا پرانے پر گرا کر نئے پر نکالنا۔ الحُسَّر: جنگ میں پیادہ فوجی جن کے چہرے اور سر کھلے ہوں، زرہ اور خود نہ پہنی ہو۔ الحَاسِر (فا): جس نے پگڑی، زرہ وغیرہ نہ پہنی ہو، عورت جس نے اپنے چہرہ سے اوڑھنی اٹھا رکھی ہو۔ المَحْسِر و المَحْسَر جمع محَاسِر: چہرہ، باطن (کہا جاتا ہے: فلانٌ ملیح المنظر کریم المَحْسَر: فلاں شخص خوبصورت اور شریف باطن ہے) طبیعت۔ کہا جاتا ہے: ارض عارية المحَاسِر: نباتات سے خالی زمین۔

۳۔ حَسِرَ ـَ حَسَرًا و حَسْرَةً: افسوس کرنا۔ حَسَّرَہ: کو افسوس کرانا، کو افسوس کرنے پر اکسانا۔ تَحَسَّرَ علیه: پر افسوس کرنا۔ الحَسِر: افسوس کرنے والا۔ الحَسِیر جمع حَسْری: افسوس کرنے والا۔ الحَسْران: وہ شخص جسے اپنی کھوئی ہوئی چیز پر سخت حسرت و ندامت ہو۔ التحاسِیر واحد تحسیر: مصائب، آفات۔

۴۔ حَسَرَ ـُ حَسْرًا البیتَ: مکان میں جھاڑو دینا۔ المِحْسَرة: جھاڑو۔

۵۔ حَسَّرَہ: کو تکلیف پہنچانا، تکلیف دینا، حقیر سمجھنا۔

☆ حَسَرَ ـِ حَسْرًا ہ عن: کو سے اٹھانا، ہٹانا، (جیسے ڈھکن، پردہ وغیرہ)۔ ـــ عن: کو بے نقاب کرنا، کو ننگا رکھنا، سے پردہ اٹھانا۔ ـــ حُسُورًا: نگاہ کمزور ہونا۔ حَسِرَ ـَ حَسَرًا و حَسْرَةً علی: پر متاسف ہونا، پچھتانا، سے رنجیدہ ہونا، المناک ہونا، پر آہ بھرنا۔ حَسَرَ ـِ و حَسِرَ ـَ حَسَرًا: تھک جانا، نڈھال ہو جانا۔ حَسَّرَہ: کو تھکانا، نڈھال کرنا، کمزور کرنا، کا عرق نچوڑ لینا، کو رنجیدہ کرنا، غمگین کرنا، کو تکلیف یا رنج پہنچانا۔ ـ ہ عن: سے ڈھکن وغیرہ ہٹانا، کو ننگا رکھنا، کو بے نقاب کرنا۔ تَحَسَّرَ علی: سے مغموم ہونا، رنجیدہ ہونا، تکلیف پہنچنا، پر آہیں بھرنا۔ اِنْحَسَرَ عن: سے اٹھنا، ہٹنا۔ ـــ کمهُ عن ذراعه: آستین کا بازو سے چڑھنا۔ ـــ عن: سے اچانک غائب ہو جانا۔ حَسْر: تھکاوٹ، کمزوری، ضعف، ناتوانی۔ حَسَرُ البَصَر:

دور کی نظر کا کمزور ہونا۔ حَسِیر: رنجیدہ، غمگین، تھکا ہوا، نڈھال، پژمردہ، تھکا ماندہ، تھکا دینے والا۔ حَسَرَۃ جمع حَسَرات: افسوس، تکلیف، مصیبت، آہ، سخت غم، رنج، الم، قہر پیٹا۔ یا لَلْحَسَرَۃِ: حیف، افسوس، ہائے، افسوس ہے کہ، بدقسمتی سے۔ یا حَسَرَتی اور وا حَسَرتاہ: بڑے افسوس کی بات ہے، بہت بری بات حَسِیر جمع حَسْرَیٰ: تھکا ہوا، تھکا ماندہ، تھک کر نڈھال، کم (نظر)، دور کی نظر کمزور والا۔ حَسِیرُ البَصَر: جس کی دور کی نظر کمزور ہو۔ حُسُور: دور کی نظر کی کمزوری۔ حَسْران: متاسف، افسوس کرنے والا، غمگین، مصیبت زدہ، رنجیدہ۔

حسف: ا۔ حَسَفَ - حَسْفًا السحابُ: بادل کا چلنا۔ ــ الغَنَمَ: بکریوں کو ہانکنا۔ الحَسْفَة: پتلا بادل۔

۲۔ حَسَفَ - حَسْفًا و حَسَّفَ التَمْرَ: کھجور کو صاف کرنا۔ ــ القرحَۃَ: زخم کو چھیلنا۔ اَحْسَفَ التَمْرَ: صاف اور عمدہ کھجوروں کو غیر صاف اور ردّی کھجوروں میں ملانا۔ تَحَسَّفَ الجلدُ: جلد کا چھلنا۔ الحُسَاف: ہر چیز کا بقیہ، کھائی ہوئی چیز کا بچا کھچا حصہ۔ الحُسَافَة: ردّی کھجوریں یا کھجور کے چھلکے (کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یُعْطِی من البُرِّ الاحُسَافَتَہُ و من التمر الاحُسَافَتَہُ: فلاں شخص گیہوں میں سے محض اس کی پھٹکن اور کھجوروں میں سے صرف ردی کھجور دیتا ہے) تھوڑا پانی۔ حُسَافۃُ الناس: رذیل لوگ۔

۳۔ حَسَفَ - حَسْفًا و حَسِیفًا تِ الحیّۃُ: سانپ کا پھنکارنا۔

۴۔ حَسَفَ - حَسْفًا و حُسَافًا الزرعَ: کھیتی کاٹنا۔

۵۔ حَسِفَ - حَسَفًا لَہ: کے لئے دل میں کینہ رکھنا، سے ناراض ہونا، پر غضبناک ہونا۔ الحُسَافَۃ و الحَسِیفَۃ: دشمنی، غیظ۔ کہتے ہیں: رجع بحسیفۃ نفسِہ: وہ اپنی حاجت روائی کے بغیر لوٹ آیا۔

۶۔ تَحَسَّفَ ت اوبارُ الابل: اونٹ کے بالوں کا جھڑ جانا۔

۷۔ اِنْحَسَفَ الشیءُ فی یدی: ہاتھ میں ریزہ ریزہ ہونا۔

حسك: ا۔ حَسِكَ - حَسَكًا علیہ: پر غضبناک ہونا۔ صفت: حَسِك۔ الحَسِیکۃ والحَسَکَۃ والحُسَاکَۃ: دشمنی، کینہ۔

۲۔ حَسِكَ - ت الدابّۃُ: جانور کا دانہ چبانا۔ أَحْسَكَ الدابّۃَ: جانور کو چبانے کے لئے دانے دینا۔ الحَسِیکۃ: جانور کا دانہ۔

۳۔ أَحْسَكَ النباتُ: پودے کا کانٹے دار ہونا۔ الحَسَك واحد حَسَکۃ (ن): کانٹے دار پودہ۔ مچھلی کی باریک ہڈی۔ الحَسِیکۃ (ح): خار پشت، سیہی۔

۴۔ الحَسِیك: پست قد۔

○ حَسَك واحد حسکۃ: کانٹے، سولیں، بالیں، نوکدار کیل یا سلاخیں، مچھلی کی ہڈیاں، اناج کی بالیوں کے بال، جوار یا مکئی کے ریشے، کئی خاردار جڑی بوٹیوں کا نام۔ حَسَکی: خاردار، کانٹے دار، سخت۔

حسل: ا۔ حَسَلَ - حَسْلًا الدابّۃَ: جانور کو تیز ہانکنا۔

۲۔ حَسَلَ - حَسْلًا الشیءَ: کو مسترد کرنا، نامنظور کرنا۔ حُسِلَ بہ: ذلیل کیا جانا، ذلیل ہونا۔ حَسَّلَ بنفسہ: اپنے آپ کو ذلیل کرنا، دناءت اختیار کرنا۔ الحَسِیل جمع حُسُل: گھٹیا چیز۔ الحُسَالَۃ: جو وغیرہ کی بھوسی۔ ــ و الحَسِیلَۃ: قوم کے گھٹیا لوگ۔ المَحْسُول: گھٹیا، ردّی۔

۳۔ تَحَسَّلَ و اِحْتَسَلَ: گوہ کا بچہ شکار کرنا۔ الحِسْل جمع حِسَالَۃ و أَحْسَال و حُسُول و حِسْلان (ح): گوہ کا بچہ۔ کہا جاتا ہے: لا آتیك سِنَّ الحِسْل: میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ (گوہ کے دانت اس کے مرنے تک نہیں گرتے اس لئے ان سے ہمیشگی مراد لی جاتی ہے)۔

۴۔ الحَسِیل واحد حسیلۃ (ح): گائے کے بچے۔

حسم: حَسَمَ - حَسْمًاہ: کو جڑ سے کاٹنا۔ اِنْحَسَمَ: جڑ سے کٹ جانا۔ العِرقَ: رگ کاٹ کر داغ دینا تا کہ خون بہنا بند ہو جائے۔ ــ الداءَ: بیماری کو دوا سے دور کرنا۔ ــ ہ الشیءَ: کو سے روکنا، منع کرنا۔ الأَحْسَم: تجربہ کار، فیصلہ کن آدمی۔ الحُسَام: تیز کاٹنے والی تلوار۔ حُسَامُ السیف: تلوار کی دھار۔ الحُسُوم: نامبارک، منحوس۔ کہا جاتا ہے: ایامٌ حُسُومٌ و اَیَامُ حُسُومٍ: نامبارک دن (بصورت وصف اضافت)۔ المَحْسَمَۃ: کاٹنے کا سبب۔ کہا جاتا ہے: ھذا مَحْسَمَۃٌ للداء: یہ بیماری کو دور کرتا ہے۔

○ حَسَمَ - حَسْمًا ہ: کو کاٹنا، کاٹ ڈالنا، الگ کرنا، جدا کرنا، کو مکمل کرنا، ختم کرنا، آخری صورت دینا، (مسئلہ) کا فیصلہ کرنا، پر فیصلہ دینا، (بحث) کو طے کرنا، کو (سے) منہا کرنا، تفریق کرنا۔ اِنْحَسَمَ: کٹ جانا، الگ ہو جانا، مکمل ہو جانا (بحث وغیرہ) طے ہو جانا۔ حَسْم: ختم کرنا، تکمیل، اختتام، فیصلہ، طے کرنا، تسویہ، انقطاع، بند کرنا، بند ہونا، تفریق، منہائی، کمشن دینا۔ حُسَام: تلوار، تلوار کی دھار۔ حُسُوم: مہلک، کاری، صبر آزما، تکلیف دہ، تھکا دینے والا (جمع) راتیں، دن، سال۔ حَاسِم: فیصلہ کن، آخری، قطعی، حتمی، غیر مبہم، واضح، غیر مشروط، ناطق۔

حسن: حَسُنَ و حَسَنَ - حُسْنًا: خوبصورت ہونا، اچھا ہونا صفت: حَسَن جمع حِسَان و حُسَّان جمع حُسَّانون، و حاسِن و حَسِین مؤنث حَسَنَۃ و حَسْنَاء جمع حِسَان و حَسَنات۔ (مبالغہ میں): حُسَّان مؤنث حُسَّانۃ۔ حَسَّنَ ہ: کو آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا۔ حَاسَنَ مُحَاسَنَۃً ہُ: پر خوبصورتی میں غالب آنا، سے لطف و مہربانی سے پیش آنا، خوش معاملگی سے پیش آنا۔ کہا جاتا ہے: اِنّی لأُحَاسِنُ بكَ الناسَ: میں لوگوں پر تمہارے محاسن کی وجہ سے فخر کرتا ہوں۔ أَحْسَنَ: اچھا کام کرنا، نیکی کرنا، اچھے طریقے سے کرنا۔ ــ الشیءَ: کو اچھا بنانا، کو اچھی طرح جاننا۔ (کہا جاتا ہے: فلانٌ یُحْسِنُ القراءَۃَ، فلاں شخص عمدہ طریقے سے پڑھتا ہے)۔ ــ الیہ و بہ: سے نیک سلوک کرنا، نیکی کرنا۔ تَحَسَّنَ: خوبصورت ہونا، سر مونڈنا۔ (کہتے ہیں: دَخَلَ الحَمّام فَحَسَّنَ: وہ حمام میں گیا اور حجامت بنائی)۔ ــ بکذا: سے آراستہ ہونا۔ اِسْتَحْسَنَ ہ: کو اچھا جاننا، خوبصورت سمجھنا۔ الحُسْن جمع مَحَاسِن: (غیر قیاسی): خوبصورتی۔ ــ و الحَسَن (ع ا): کہنی کے پاس کی ہڈی۔ المحَاسِن: بدن کی خوبصورت جگہیں۔ حُسْنُ ساعۃ (ن): ایک پودا جو غروب آفتاب سے ایک گھنٹا پہلے کھلتا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد مرجھا جاتا ہے۔ گویا ایک ساعت کی بہار رکھتا ہے۔ سِتُّ الحُسْن (ن): ایک قسم کی بیل جس پر خوبصورت پھول لگتے ہیں۔ الحَسَنۃ جمع حَسَنات: نیک کام، نیکی، بھلائی، فائدہ۔ الأَحْسَن جمع اَحَاسِن مؤنث حُسْنیٰ: زیادہ اچھا، زیادہ خوبصورت۔ خلاف قاعدہ بعض اوقات اس کی تصغیر لا کر کہتے ہیں۔ ما اُحَیْسِنَ زیدًا۔ اَحَاسِنُ القوم: قوم کے خوبصورت یا اچھے اشخاص۔ الحُسْنیٰ جمع حُسْنَیَات و حُسَن: اچھا کام، اچھا انجام، کامیابی، اچھی عاقبت، شہادت (اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا)، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی جیسے کریم، رحیم وغیرہ ان کی تعداد ۹۹ ہے۔ ان کو ترتیب دیا گیا ہے اور ایک مقررہ انداز سے ان کی

تلاوت کی جاتی ہے۔ الحُسْنَیَان: کامیابی، شہادت۔ کہا جاتا ہے: حُسَیْنَاہ و حسناؤہ ان یفعل کذا: وہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرے۔ الحَسُّون (ح): ایک چھوٹا خوش آواز خوبصورت رنگوں والا پرندہ۔ اسے شوٗ کی بھی کہا جاتا ہے۔ المِحْسَان: بہت بھلائی کرنے والا۔ المَحْسَنَة: خوبصورت بنانے والی چیز۔ کہا جاتا ہے: ھذا طعامٌ مَحْسَنَةٌ للجسم: یہ جسم کو خوبصورت بنانے والا کھانا ہے۔ التحاسین: خوبصورت چیزیں۔ کہا جاتا ہے: ما أَبْدَعَ تحاسینَ الطاؤوس و تزاینهُ: مور کی خوبیاں اور اس کی خوش منظری کس قدر بھلی اور عجیب ہے!

۲۔ اَحْسَنَ الرجلُ: بلند ٹیلہ پر بیٹھنا۔ الحَسَن: بلند ٹیلہ۔

۳۔ الحَسَنَان: حضرت علیؓ بن ابی طالب کے بیٹے حَسَن اور حُسَین۔

☆ حَسُنَ ـ حُسْنًا: خوبصورت ہونا، پیارا ہونا، عمدہ ہونا، اچھا ہونا، مناسب ہونا، موزوں ہونا، ٹھیک، قرین مصلحت یا زیبا ہونا، اچھی حالت میں ہونا، دل پسند یا پسندیدہ حالت میں ہونا۔ إن حَسُنَ لَدَيْكَ: اگر تم اُسے پسند کرو، اگر یہ تمہیں بالکل ٹھیک ٹھاک لگے۔ يَحْسُنُ بِكَ ان: یہ تمہارے فائدے کی بات ہے کہ تم...... تمہیں چاہئے کہ......۔ حَسُنَ استعدادُہ ل: وہ تو بالکل آمادہ تھا کہ......۔ حَسَّنَ ہ: کو خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا، سنوارنا، زینت دینا، سنگارنا۔ (بیان) کو چٹ پٹا بنانا: کی آرائش کرنا، سج دھج کرنا، کو سدھارنا، بہتر کرنا، ترقی دینا، زرخیز کرنا، کو بہتر شکل دینا، بہتر بنانا، کو بہتر شکل میں پیش کرنا، مناسب روشنی میں پیش کرنا۔ ـ ہ ل: کی سے ایک عمدہ یا پسندیدہ چیز کے طور پر تصویر کھینچنا۔ ـ ہ: (کسی ناگوار یا مضرت رساں چیز کو) گوارا بنانا۔ حَاسَنَ ہ: سے لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ أَحْسَنَ: اچھا کرنا، اچھی طرح کرنا۔ ـــ ہ: کو اچھی طرح کرنا، مہارت سے کرنا، عمدہ طور پر کرنا، کو کرنا جاننا، کو کر سکنا، کا استاد ہو جانا، پر حاوی ہونا، کمال حاصل کرنا، پر قابو ہونا، میں ماہر ہونا (زبان، فن، دستکاری وغیرہ) کا ماہر ہونا، سے خوب واقف ہونا۔ ـــ: نیکی کرنا، بھلائی کرنا، مخیر ہونا۔ إلی/ب: سے نیکی کرنا، بھلائی کرنا، پر کرم فرمائی کرنا، نوازش کرنا، مہربانی کرنا، نوازشیں یا مہربانیاں کرنا، سے مروت کرنا، خوش اخلاق ہونا، بامروت ہونا۔ ـ الی: کو خیرات دینا، مَا أَحْسَنَهُ: وہ کتنا اچھا ہے! وہ کتنا خوبصورت ہے!۔ اَحْسَنْتَ: شاباش۔ أَحْسَنَ الالمانیة: جرمن زبان اچھی طرح جاننا، جرمن زبان پر حاوی ہونا۔ اَحْسَنَ التسدید: اچھا یا صحیح نشانہ لینا۔ أَحْسَنَ مَشُوْرَتَهُ: اچھا مشورہ دینا۔ اَحْسَنَ الظَنَّ ب: کے متعلق اچھی رائے رکھنا، کے متعلق امید افزا رائے قائم کرنا۔ أَحْسَنَ مُعَامَلَتَهُ: سے اچھا برتاؤ کرنا۔ تَحَسَّنَ: عمدہ ہونا، خوبصورت ہونا، زیادہ حسین ہونا، بہتر ہونا، سدھرنا۔ اِسْتَحْسَنَ ہ: کو اچھا، عمدہ وغیرہ سمجھنا، کو درست خیال کرنا، مناسب سمجھنا، قرین مصلحت سمجھنا، کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، کو منظور کرنا، سے اغماض کرنا، چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا، کو پسند کرنے لگنا، کی داد دینا، قدردانی کرنا، سے محظوظ ہونا، کا لطف اٹھانا، میں لذت پانا نیز بمعنی أَحْسَنَ۔ اِسْتَحْسَنَ الانجلیزیةَ: انگریزی زبان اچھی طرح جاننا۔ اُسْتُحْسِنَ: اچھا ہونا، قرین مصلحت ہونا، قابل تعریف ہونا، سراہنے کے قابل ہونا، پسندیدہ ہونا۔ حُسْن: خوبصورتی، خوبروئی جمال، حسن، دلکشی، دلربائی، حسن و جمال، بزرگی، فضیلت، سربلندی، برتری، فوقیت، بالادستی، خوبی، عمدگی، کمال، اعلیٰ درجے کی خوبی۔ لِحُسْنِ الحَظِّ: خوش قسمتی سے۔ حُسْنُ السلوك: اچھا رویہ، اچھا برتاؤ، حسن سلوک، اچھی روش، اچھا طور طریقہ۔ حسن السَیر و السلوك: بے داغ، پاک صاف زندگی۔ حُسْنُ التَصَرُّف: ہوشمندی، زیرکی، دور اندیشی، سمجھ، شعور، عقل، فرزانگی، ذاتی، شخصی یا انفرادی رائے، فہم، یا بصیرت۔ حُسْنُ الظن: اچھی رائے، مفید مطلب رائے، پسندیدہ خیال۔ حُسْنُ التَعْبِیر: کڑوی بات کی نرم الفاظ میں ادائیگی۔ حُسْنُ القصد (النیة): اچھا ارادہ، خلوص۔ حسنُ یوسف: تل، خال، حسین خط۔ بِسْتُ الحُسن: ایک قسم کی بیل جس پر خوبصورت پھول لگتے ہیں، مہلک مکوے کا پودا، بلاذر، بھلاواں، مکو۔ حَسَنٌ جمع حِسَان: خوبصورت، خوبرو، دلکش، جاذب نظر، عشق انگیز، خوب، اچھا، عمدہ، خوشگوار، سہانا، دلپذیر، شاندار، برتر، نفیس، بانکا، چھیلا۔ حَسَنًا: خوب، شاندار طور پر، خوبصورتی سے، بہت خوب۔ الحِسَان: خواتین، اونچاریت کا ٹیلہ۔ الحَسَنِیُّون: حضرت حسنؓ بن علیؓ و فاطمہؓ کی اولاد۔ اَحْسَن جمع اَحَاسِن: بہتر زیادہ عمدہ، زیادہ دلکش، زیادہ حسین، زیادہ معقول، خوب تر، زیادہ شاندار، زیادہ نفیس، زیادہ قابل تعریف۔ ھو احسن حالاً منھم: وہ ان سے زیادہ آسودہ یا خوش حال ہے۔ بالتی ھِیَ اَحْسَن: دوستانہ طریقہ سے، آشتی سے، شفقت سے، لطف و کرم سے، نوازش سے۔ حَسْنَاء جمع حِسَان: خوبصورت (عورت)، قابل دید، دیدنی، دیکھنے کے قابل، گوری، البیلی، حسینہ، حسینوں کی سرتاج۔ الحُسْنَی جمع الحُسنات: بہترین نتیجہ، خوش گواری، صاف ستھرا ذریعہ، دوستانہ انداز۔ حَسَنَة جمع حَسَنَات: نیکی، بھلائی، سخاوت، دان، خیرات، عطیہ، بخشش، احسان۔ حَسُّون: ایک چھوٹا پرندہ زرد پروں والا یورپ میں عام ہے۔ مَحْسَنَة: اچھی اور عمدہ چیز، فائدہ جمع مَحَاسِن: خوشنما اور دلکش شکل و صورت، چہرہ مہرہ، حسن و جمال، دلفریبیاں، دلکشیاں، کششیں، ذاتی جوہر، فوائد، اچھی خصوصیات، اچھائیاں، خوبیاں۔ تحاسین: آرائش، زیبائش، اسباب آرائش، آرائش کا سامان۔ تحسین النسل: علم اصلاح نسلِ انسانی۔ مُحَاسَنة: دوستانہ سلوک، مہربانی، آشتی۔ فی التحسن: روبہ صحت۔ مُحَسِّن: آرائش کرنے والا، خوبصورت بنانے والا، ترقی دینے والا، بہتر کرنے والا جمع مُحَسِّنَات: سنگار کا سامان، غازہ و گلگونہ۔ مُحْسِن: کرم فرما، مہربان، سخی، فیاض، مخیر، کریم النفس، خیر خواہ۔ مُسْتَحْسَن: منظور، پسندیدہ، خوشگوار، قابل تعریف، سراہنے کے قابل، سہانا، دلپذیر، موافق، مطابق۔ تحسین: خوبصورت بنانا، سجانا، آرائش کرنا، زیبائش، آرائش، سجاوٹ، ترقی، بہتر، بنانا، شاندار بنانا، تکمیل کرنا، آخری صورت دینا۔

حسا: حَسَا ـ حَسْوًا و تَحَسَّی و اِحْتَسَی المرقَ: شوربا تھوڑا تھوڑا پینا۔ ـــ الطائرُ الماءَ: پرندے کا چونچ سے پانی پینا۔ حَسَّی و اِحْتَسَی و حَاسَی الرجلَ المَرَقَ: کو شوربا تھوڑا تھوڑا پلانا۔ تَحَاسَیا: ایک دوسرے کو شوربا پلانا۔ الحَسْو و الحَسَاء و الحَسَاء: ہر پی جانے والی رقیق اور پتلی چیز (اسی سے ہے: یومٌ کَحَسْوِ الطیر: بہت چھوٹا دن) ایک قسم کی غذا جو آٹے اور پانی سے تیار کی جاتی ہے، آج کل اسے شوربا کہتے ہیں۔ الحَسُوّ: بمعنی الحَسُو: بہت گھونٹ گھونٹ کر کے پینے والا۔ الحُسْوَة جمع أَحْسِيَة و اَحْسُوَة جمع احاسٍ: ایک گھونٹ۔ کہا جاتا ہے: فی الأناء حُسْوَةٌ: برتن میں ایک گھونٹ کی مقدار ہے۔ الحَسْوَة جمع حَسَوَات: حَسَا کا اسم مرۃ: ایک گھونٹ۔ الحَسِیَّة: پی جانے والی شے۔

حسی: حَسَی ۔ حَسْیًا و اِحْتَسَی: کھودنا۔ الحِسَی او الحَسَیٰ او الحِسْیُ جمع اَحْسَاء و حِسَاء: دلدلی زمین۔ حَسِیَ و اِحْتَسَی ما فی نفسہ: دل کی بات کو آزمانا۔

○ حَسَا ۔ حَسْوًا و تَحَسَّی و اِحتسی ہ: کو پینا، کو ہونٹوں سے تھوڑا تھوڑا پینا، کی چسکی لینا۔ حَسْو و حَسَاء: شوربا یخنی۔ حَسْوَۃ جمع حَسَوات: چسکی، گھونٹ۔ حُسْوَۃ جمع حُسُوات و اَحْسِیَۃ: ایک چسکی، ایک گھونٹ، سیال چیز کی تھوڑی مقدار، شوربہ، یخنی، ایک قسم کا پتلا صاف شوربہ۔

حش: ۱۔ حَشَّ ۔ حَشًّاتِ الیدُ: ہاتھ کا خشک یا شل ہوجانا۔ ۔۔ الوَلَدُ فی بطن الناقۃ: اونٹنی کے بچہ کا پیٹ میں خشک ہوجانا۔ اَحَشَّ ت الیدُ: ہاتھ کا شل ہوجانا، خشک ہوجانا۔ ۔۔ ت الناقۃُ او المراۃُ: اونٹنی یا عورت کے پیٹ میں بچہ کا خشک ہوجانا۔ صفت: مُحِش۔ اِسْتَحَشَّ تِ الیدُ: ہاتھ کا شل ہوجانا۔ الاُحْشُوش و المَحْشُوش: اپنی ماں کے پیٹ میں خشک ہوجانے والا بچہ۔

۲۔ حَشَّ ۔ حَشًّا الحربَ: جنگ کو بھڑکانا۔ ۔ النارَ: آگ جلانا، آگ کو لکڑی سے ہلانا۔ ۔۔ الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ المِحَش و المِحَشَّۃ: آگ ہلانے کی سیخ۔

۳۔ حَشَّ ۔ حَشًّا المالَ: مال کو زیادہ کرنا، بڑھانا۔

۴۔ حَشَّ ۔ حَشًّا الصیدَ: شکار کو دونوں جانبوں سے گھیر لینا۔ الحِشَاش جمع اَحِشَّۃ: ہر چیز کا پہلو۔ کنارہ۔

۵۔ حَشَّ ۔ حَشًّا العُشبَ: گھاس کاٹنا۔ ۔ الفرسَ: گھوڑے کے آگے گھاس ڈالنا، اور اسی سے یہ مثل مشہور ہے: اَحُشُّكَ و تَروثنی: میں تو تیرے سامنے گھاس ڈالتا ہوں اور تو مجھ پر لید کرتا ہے۔ یعنی تو نیکی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے۔ اَحَشَّ الکلاءُ: گھاس کے کٹنے کا وقت قریب آنا۔ ۔۔ ت الأرضُ: زمین کا بہت گھاس والی ہونا یا زمین پر گھاس اُگنا۔ ۔ ہُ: کو گھاس کاٹنے میں مدد دینا۔ اِحْتَشَّ الحشیشَ: گھاس کو تلاش کرنا اور جمع کرنا۔ الحُش و الحَش و الحِش جمع حُشُوش: باغ۔ المَحَش و المَحَشَّۃ جمع مَحَاش: بہت گھاس والی جگہ۔ المِحَش: گھاس کاٹنے کی درانتی۔ الحَشیش واحد حشیشۃ: خشک گھاس۔ الحشیشۃ او قِنّب الهند (ن) ایک طبی فوائد کی حامل بوٹی، بھنگ۔ حشیشۃ السلاك (ن): ایک سبزی کو ل میں استعمال ہوتی ہے جس سے وہ مزیدار ہوجاتی ہیں۔ حشیشۃ الدینار: ایک بیل جس کے پھل شراب میں تلخی پیدا کرتے ہیں۔ الحِشَاش جمع اَحِشَّۃ: گھاس کی گون۔ الحَشَّاش جمع حَشَّاشون و حَشَّاشۃ: گھاس جمع کرنے یا بیچنے والا، بھنگ پینے والا۔

۶۔ اَحَشَّ ہُ عن حاجتہ: سے جلدی کرانا۔

۷۔ اِسْتَحَشَّ الغصنُ: ٹہنی کا لمبی ہونا۔

۸۔ اِسْتَحَشَّ العظمُ: ہڈی کا باریک اور پتلی ہونا۔

۹۔ اِسْتَحَشَّ الرجلُ: پیاسا ہونا۔

۱۰۔ الحُشّ و الحَشّ و الحِش: کھجوروں کا جھنڈ، بول و براز، جائے ضرورت، پاخانہ۔ الحُشَاش و الحُشَاشۃ: بیمار یا زخمی میں زندگی کا آخری سانس۔ کہا جاتا ہے: حُشَاشَاكَ ان تفعل کذا: زیادہ سے زیادہ تم ایسا کرسکتے ہو۔

۱۱۔ حَشْحَشَ تُہُ النارُ: کو آگ کا کرجلانا۔ حَشْحَشُوا و تَحَشْحَشُوا: اٹھنے کے لئے ہلنا، حرکت کرنا۔ تَحَشْحَشَ القومُ: لوگوں کا متفرق ہونا۔

○ حَشَّ ۔ حَشًّا ہ: کو کاٹنا، (گھاس) کاٹنا، لائی یا کٹائی کرنا۔ حَشَّش: بھنگ پینا، حشیش اسم جنس جمع حَشَائش: جڑی بوٹیاں، گھاس، چری، گیاہ، چری کے پودے، گھاس پات گھاس پھونس، خس و خاشاک، خشک گھاس، چارہ۔ حشیش: بھنگ، بھنگ کے پودے کے پتوں اور پھولوں سے بنائی ہوئی مفرد دوا۔ مردہ پیدا ہونے والا بچہ۔ حشیش الدینار: ایک بیل جس کے پھل شراب میں تلخی پیدا کرتے ہیں۔ حشیشہ: جڑی بوٹی۔ حَشَّاش جمع حَشَّاشون: بھنگ پینے یا چبانے والے، حشیش کا نشہ کرنے والا، حشیش کا نشہ باز۔ حُشَاش و حُشَاشۃ: آخری سانس، زندگی کی آخری رمق۔ حشیشی: عرق رنگ کا۔ مِحَشّ و مِحَشَّۃ جمع مَحَاش: درانتی، آگ کریدنی۔ مِحَشَّۃ جمع مِحَشَّات: تلائی کرانے کا اوزار، کھرپا۔ مُحَشِّش اور مُحَشِّشْ خَانۃ: وہ جگہ جہاں بہت حشیش ہو۔ مَـحْشَشَۃ جمع مَحَاشِش: وہ جگہ جہاں حشیش بکثرت ہو۔

حشا: حَشَأَ ۔ حَشْأً النارَ: آگ جلانا، روشن کرنا۔ ۔ ہُ بِسَهْمٍ: کے پیٹ میں تیر مارنا۔ ۔۔ ہُ بِسَوطٍ: کے پیٹ یا پہلو پر کوڑا مارنا۔ المِحْشَاء جمع مَحَاشِی: موٹے کپڑے کی چادر، کمبل۔

حشب: اَحْشَبَہُ: کو غضبناک کرنا، ناراض کرنا۔ اِحْتَشَبُوا: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الحَوْشَبَۃ: لوگوں کی جماعت۔

حشد: ۱۔ حَشَدَ ۔ حُشُودًا الزرعُ: کھیتی کا پورا اُگ آنا۔

۲۔ حَشَدَ ۔ حَشْدًا الشیءَ: کو جمع کرنا۔ اسی سے ہے: حَشَدَ الجنودَ للحرب: اس نے لشکر کو جنگ کے لئے جمع کیا۔ ۔۔ القومُ: لوگوں کا پکارے جانے پر جلد جواب دینا۔ ۔۔ ت الناقۃُ: اونٹنی کا تھن میں دودھ جمع کرنا۔ حَشَّدَ الشیءَ: چیز کو جمع کرنا۔ اَحْشَدَ و تَحَشَّدَ و تَحَاشَدَ و اِحْتَشَدَ القومُ: ایک غرض اور مقصد کے لئے جمع ہونا۔ کہا جاتا ہے: احتشدَ لنا فی الضیافۃ: اس نے ہماری مہمانی میں فراخ دلی سے کام لیا۔ احتشدَ لِفلانٍ فی کذا: اس نے فلاں شخص کے لئے ایک جماعت تیار کی۔ الحَشْد (مص) و الحَشَد جمع حُشُود: جماعت۔ کہا جاتا ہے: عندی حشدٌ من الناس: میرے پاس لوگوں کی ایک جماعت ہے۔ عینٌ حُشُد: پانی نہ ختم ہونے والا چشمہ۔ الحَشِد جمع حُشُد: وہ شخص جو دوسرے کی مدد کرنے میں مال صرف کرنے اور کوشش میں دریغ نہ کرے۔ الحَاشِد (فا): مستعد و تیار (کہا جاتا ہے: فلانٌ حافِدٌ و حاشِدٌ: فلاں شخص اپنی خدمت اور کوشش میں چست اور محنتی ہے)، مستعدی سے اونٹنی کا دودھ دوہنے والا، بہت دانوں والا کھجور کا گچھا۔ المَحْشُود: اپنے تھنوں میں جلد دودھ جمع کرنے والی اونٹنی۔ المَحْشُود: مطاع جس کی خدمت میں لوگ چست ہوں۔ المَحَاشِد: محفلیں، مجلسیں۔

○ حَشَدَ ۔ حَشْدًا ہ: خصوصاً فوج کو اکٹھا اور یکجا کرنا۔ ۔۔ ہ: فوج کو فوجی خدمت کے لئے طلب کرنا، حرکت میں لانا۔ ۔۔ ہ الی: کو کسی جگہ ڈھیر کرنا، جمع کرنا، حفاظت کے لئے رکھنا۔ حَشَّدَ ہ: کا انبار لگانا، ڈھیر لگانا، کو جمع کرنا، کو یکجا جمع کرنا (خصوصاً فوج کو)۔ تَحَشَّدَ و اِحْتَشَدَ: اکٹھا ہونا، جمع ہونا، مجتمع ہونا، فوجوں کا یکجا جمع ہونا، قطار بند ہونا۔ حَشْد جمع حُشُود: جمع ہونا، مجتمع ہونا، اکٹھا ہونا، اجتماع، ہجوم، عوام الناس، بھیڑ، انبوہ، ازدحام، ارتکاز، ایک مرکز پر اجتماع، (خصوصاً فوجوں کا)۔ تَحَشُّد: فوجوں کا ایک مرکز پر اجتماع، ارتکاز۔ اِحْتِشَاد: اجتماع، بھیڑ، انبوہ، ازدحام، فوجی اجتماع۔ حَاشِد: بہت، متعدد، پر ہجوم۔ حَاشِدۃ: بیٹری (battery)

حشر: ۱۔ حَشَرَ ۔ حَشْرًا الناسَ: لوگوں کو جمع کرنا۔ یومُ الحَشْر: یوم البعث، یوم المعاد، قیامت کا دن۔ الحَاشِر جمع حاشِرُون و حُشَّار (فا):

جمع کرنے والا۔ المَحْشَر والمَحْشِر: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، قیامت کے دن لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔

۲۔ حَشَرَ ـُ حَشْراً هُ عن بلاده: کو جلاوطن کرنا۔ ـ الجمعَ: کو ایک جگہ سے نکالکر دوسری جگہ لیجانا۔

۳۔ حَشَرَ ـُ حَشْراً العودَ: لکڑی کو چھیل کر پتلا کرنا۔ الحَشْر (مص) جمع حُشْر من الآذان: باریک کان۔ کہاجاتا ہے: اُذُنٌ حَشْرٌ و اُذُنَانِ حَشْرٌ و آذانٌ حَشْرٌ: باریک کان (واحد تثنیہ اور جمع میں مصدر ہونے کی وجہ سے یکساں استعمال ہوتا ہے) ـــ مِن الأسِنَّة: باریک نیزہ۔ حَشْوَر: پتلے ناک نقشے والا۔ کہاجاتا ہے: فرسٌ حَشْوَرٌ: اچھی ساخت کا گھوڑا۔ الحَشَرَة جمع حَشَر: دانہ سے لگا ہوا چھلکا۔

۴۔ حَشَرَ ـُ حَشْراً تِ السنةُ الشديدةُ المالَ: خشک سالی کا مویشیوں کو ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا۔ حُشِرَتِ الوحوشُ: وحشی جانوروں کا مرنا، ہلاک ہونا۔

۵۔ حُشِرَ و اِحْتُشِرَ فی رأسه: بڑے سر والا ہونا۔ حُشِرَ فی بطنه: بڑے پیٹ والا ہونا، اور دیگر اعضائے بدن کے لئے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی بڑے اعضاء والا ہونا۔ الحَشْوَر: بڑے پیٹ والا، پھولے ہوئے پہلوؤں والا۔

۶۔ الحَشَرَة جمع حَشَرات (ح): کیڑے مکوڑے یا چھوٹے چھوٹے جانور۔ قاتِلُ الحَشَرات: کیڑے مار مادہ۔ الحُشَارَة: معمولی درجے کے لوگ۔

۷۔ حَشْرَجَ حَشْرَجَةً: جان کنی کے وقت سانس کا غرغرانا۔ الحَشْرَج: آبخورہ جس میں پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پہاڑی گڑھا جہاں صاف پانی ہو۔

○ حَشَرَ ـُ حَشْراً: کھچا کھچ بھرنا، لبالب بھرنا، ہجوم ہونا، ٹھسنا، گھسڑنا۔ ـ ه فی/بین: کو کے درمیان یا میں بھینچنا، دبانا، ٹھونسنا، لپیٹنا۔ عِلمُ الحشرات: علم الحشرات، حشریات۔ حَشَرِیّ: حشرات کا، حشرات کے متعلق، کیڑے مکوڑوں کا یا ان سے متعلق، حشریاتی۔

○ حَشْرَجَ و تَحَشْرَجَ: گلے میں غرغرانا۔ حَشْرَجة: غرغرانا، نزع کا غرغرہ۔

حشف: ۱۔ حَشَفَ ـِ حَشْفاً الضرعُ: پستان کا دودھ سے خشک ہوجانا۔ أَحْشَفَ ضرعُ الناقة: اونٹنی کے تھنوں کا سکڑنا، سمٹنا۔ اِسْتَحْشَفَ ضرعُ الأنثى: پستان کا سکڑنا، سمٹنا۔ ـ تِ اُذُنُ الإنسان: کانوں کا خشک ہوکر سمٹ جانا۔ الحَشِف: خشک پستان۔

۲۔ حَشَفَ عينَهُ: آنکھیں چندھیا کر دیکھنا۔

۳۔ أَحْشَفَتِ النخلةُ: کھجور کا خراب وردی پھل لانا۔ الحَشَف: ردی کھجور یا خشک اور خراب کھجور۔ کہاجاتا ہے: أَحَشَفًا و سُوءَ كِيلَة: ایک تو کھجور ردی اور پر سے ناپ بھی کم۔ یہ ضرب المثل اُس وقت بولی جاتی ہے جب کسی میں دو بری خصلتیں بیک وقت جمع ہوں۔ الحَشَفَة جمع حِشَاف: خشک خمیر۔ (وا) کھیتی کٹنے کے بعد بچے ہوئے دھانسے۔

۴۔ تَحَشَّفَ: پرانا بوسیدہ کپڑا پہننا۔ الحَشِيف: پرانا بوسیدہ کپڑا، لباس۔

۵۔ الحَشَفَة جمع حِشَاف: سمندر میں چھوٹا سا گول جزیرہ جس پر پانی نہ چڑھتا ہو۔

○ تَحَشَّفَ: پھٹے کپڑوں میں ملبوس ہونا، بے سلیقہ ملبوس ہونا۔ حَشَف: گھٹیا قسم کی کھجوریں۔ حَشَفَة: عضو تناسل۔

حشك: ۱۔ حَشَكَ ـِ حَشْكًا و حُشُوكًا الضرعُ: تھن کا دودھ سے بھر جانا۔ ـ تِ الناقةُ لبنَها: اونٹنی کا دودھ اپنے تھنوں میں جمع کرنا صفت: حَشُوك۔ ـ الناقةَ: اونٹنی کا دودھ دوہنا بند کر دینا تاکہ دودھ جمع ہوجائے صفت: مَحْشُوكة۔ ـتِ السحابةُ: بادل کا بہت پانی والا ہونا۔ ـ الوادی: وادی کا پانی کو باہر پھینک دینا۔ ـتِ النخلةُ: کھجور کا بہت پھل لانا۔ صفت: حاشِك۔ ـ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ حَشِكَ ـَ حَشَكًا اللبنُ في الضرع: تھن میں دودھ کا جلد جمع ہوجانا۔ تَحَشَّكَ الضرعُ: تھن کا دودھ سے بھر جانا۔ الحَشْكَة: بارش کی بوچھاڑ۔ الحَشَكَة: جماعت۔ کہاجاتا ہے: جاؤوا بحشكتهم: وہ اپنی جماعت کے ساتھ آئے۔

۲۔ حَشِكَ ـَ حَشَكَاتِ الدابةُ: جانور کا جو وغیرہ چبانا۔ اَحْشَكَ الدابةَ: جانور کو جو وغیرہ کھلانا۔ الحَشِيكَة: جو وغیرہ جو جانور کھائے۔

۳۔ حَشَكَ ـِ حَشْكًا و حُشُوكَاتِ الريحُ: ہوا کا مختلف اطراف سے چلنا۔ الرياحُ الحَوَاشِك واحد حاشكة: مختلف جہات سے چلنے والی ہوائیں۔

۴۔ الحُشَاكة و الحِشَاك: وہ لکڑی جو جانور کے بچہ کے منہ پر باندھی جاتی ہے تاکہ وہ دودھ نہ پی سکے۔

○ حَشَكَ ـِ حَشْكًا ه فی: کو میں کھچا کھچ یا لبالب بھرنا، جکڑنا، جام کرنا، بھینچنا، بھرنا ٹھونسنا۔

حشل: حَشَلَ ـِ حَشْلاً الشيءَ: کو ذلیل کرنا، حقیر جاننا۔ الحَشْل: ذلیل وحقیر شئے۔

حشم: ۱۔ حَشَمَ ـِ حَشْمًا و حَشَّمَ و اِحْتَشَمَ هُ: کو غضبناک کرنا۔ حَشِمَ ـَ حَشَمًا: غضبناک ہونا۔ ـ هُ حَشْمًا: کو غضبناک کرنا۔ حاشَمَ هُ: کو غضبناکی پر بھڑکانا، برانگیختہ کرنا۔ اِحْتَشَمَ منه: پر غضبناک ہونا۔ حَشَمُ الرجل: انسان کے وہ قرابت دار اور غلام یا پڑوسی جو اسکی خاطر دوسروں پر غضبناک ہوں یا وہ ان کی خاطر دوسروں پر خشمگین ہو۔ اہل وعیال، قرابت، نوکر چاکر۔ الحِشْمَة: غیظ و غضب۔ الحُشْمَة: قرابت، ذمہ داری۔

۲۔ حَشَمَ ـِ حَشْمًا ه: کو ناپسندیدہ بات سنا کر دکھ پہنچانا۔ حَشَّمَ ه: کو تکلیف یا دکھ پہنچانا۔

۳۔ حَشَمَ ـِ حَشْمًا وحَشَّمَ هُ: کو شرمندہ کرنا۔ حَشِمَ ـَ حُشُومًا منه: سے منقبض ہونا۔ تَحَشَّمَ مِن فلان: سے شرم وحیا کرنا، کی مذمت سے بچنا۔ اِحْتَشَمَ ه: کو شرمندہ کرنا۔ ـ منه و عنه: سے شرم وحیا کرنا، منقبض ہونا۔ الحِشْمَة: حیا، ادب، شرم۔ الحُشْمَة: عورت۔ الحَشِيم جمع حُشَمَاء: شرمیلا، حیادار، بزدل، ڈرپوک، جھجکنے والا۔

۴۔ حَشَمَ ـِ حَشْمًا الشيءَ: چیز طلب کرنا۔ کہاجاتا ہے: ماحَشَمَ الصيدَ: اس نے شکار نہیں پایا۔ ماحَشَمَ من طعامِنا: اس نے ہمارا کھانا نہیں کھایا۔

۵۔ حَشِمَ ـَ حُشُومًا: تھک جانا، لاغری کے بعد آنا۔

○ حَشَمَ ـِ حَشْمًا ه: کو شرمندہ کرنا، شرم دلانا۔ حَشَّمَ و أَحْشَمَ ه: بمعنی حَشَمَ ه۔ تَحَشَّمَ و اِحْتَشَمَ من یا عن: کا سامنا کرنے سے شرمندہ ہونا۔ ـــ: شرمیلا، حیادار، کم گو یا جھجکنے والا ہونا۔ حِشْمَة: شرم وحیا، شرمیلاپن، بزدلی، بے حوصلگی، انکساری، عزت، آبرو، تہذیب، شائستگی، سلیقہ، شعور آداب مجلس۔ مَحَاشِم: اعضاء تناسل۔ تَحَشُّم و احتشام: شرم وحیا، شرمیلاپن، حجاب انکساری، غیرت، کم گوئی، شائستگی، تہذیب، عزت آبرو، آداب مجلس۔ مُحْتَشِم: شرمیلا، حیادار، لجیلا، کم گو، آبرودار، باحیا، باسلیقہ، شائستہ، مہذب۔

حشن: ۱۔ حَشِنَ ـَ حَشَنًا السقاءُ: زیادہ دودھ رکھنے اور بار بار نہ دھونے کی وجہ سے مشک کا بدبودار ہو جانا۔ أَحْشَنَ السقاءَ: مشک کو بدبودار کر دینا۔ تَحَشَّنَ: میلا ہونا۔ الحَشَن (مص): دودھ کی

چکنائی کی وجہ سے پیدا ہونے والی میل کچیل۔ الحِشْنَة: کینہ۔

۲۔ حَاشَنَ هٗ: آپس میں گالم گلوچ کرنا۔

حشا: ۱۔ حَشَا ُ حَشْوًا الوسادةَ بالقطن: تکیہ میں روئی بھرنا۔ اِحْتَشٰی اِحتشاءً: بھرجانا۔ کہا جاتا ہے: اِحْتَشَتِ الرمانةُ بالحَبّ: انار دانوں سے بھرگیا۔ اِحْتَشٰی مِن الطعام: اس کا پیٹ کھانے سے بھرگیا۔ ــــ ت المرأةُ الحَشِيَّةَ و بِها: عورت نے گدی کپڑا زیب تن کیا تاکہ موٹی نظر آئے۔ الحَشْو جمع المَحَاشِي (جو خلاف قیاس ہے)، بھرنے کی چیز یعنی جس سے کوئی چیز بھری جائے، بکری کے بچہ کے پیٹ میں بھرا جانے والا مسالہ، فضول کلام۔ الحَشَا جمع اَحْشَاء: پیٹ کی اندرونی چیزیں۔ الحِشْوَة و الحُشْوَة من البطن: انتڑیاں۔ الحَشَوِيّ: فضول کلام کرنے والا۔ المَحْشَي: پیٹ میں کھانے کی جگہ۔ المَحْشيّ (ط): کسی کاغذ وغیرہ میں بھری ہوئی کھانے کی چیز (عام لوگوں کی زبان میں)۔ الحَشِيَّة جمع حَشَايَا: گدی کپڑا جس کو پہن کر عورت موٹی نظر آئے، بھرا ہوا بستر، گدا۔ المُحشّاة من البطن: امعاء مستقیم۔

۲۔ حَشَا ُ حَشْوًا الرجلَ: کے حشا کو صدمہ پہنچانا۔ الحَشَا جمع اَحْشَاء (ع ا): جو کچھ پسلیوں کے اندر ہو۔ کہا جاتا ہے: انا فی حَشَا فلان: میں فلاں شخص کی پناہ میں ہوں۔ فلانٌ خیرهم حَشًا: ان لوگوں میں سے فلاں شخص بلحاظ حفاظت بہتر ہے۔

۳۔ حَاشَی هٗ: کوئی تھوڑی چیز دینا۔

۴۔ الحَشْو: رذیل لوگ۔ ــــ و الحاشية من الناس والإبل: چھوٹے لوگ یا اونٹ جن میں بڑے لوگ یا اونٹ نہ ہوں۔ الحُشْوَة والحِشْوَة: ردّی چیز۔ کہا جاتا ہے: هو من حُشْوَةِ بنی فلان: وہ بنو فلاں کے رذیل لوگوں میں سے ہے۔

○ حَشَا ُ حَشْوًا ه ب: کو سے بھرنا، میں کسی چیز کو ٹھونسنا، پر کوئی چیز ڈالنا۔ ــــ ه: (فارم وغیرہ) بھرنا (آتشین اسلحہ) لوڈ کرنا۔ ــــ ه ه: میں کیمرہ وغیرہ میں کوئی چیز (مثل فلم) لوڈ کرنا، ڈالنا۔ ــــ ه: (دانت) بھرنا۔ ــــ ه: میں ڈالنا، داخل کرنا۔ حَشّٰی ه: (کتاب وغیرہ میں بدنیتی سے الحاق کرنا یا لفظ بڑھانا، میں ڈالنا، داخل کرنا۔ ــــ ه: پر حاشیہ لگانا۔ ــــ ه: (لباس پر) گوٹ لگانا، (لباس کے کنارے) تُرپنا۔ ــــ ه: (کتاب) کے حاشیے لکھنا۔ حَاشَا ه

من: کو سے مستثنی کرنا، خارج کرنا۔ تَحَشّٰی من: سے دور رہنا، احتراز کرنا، علیحدہ رہنا۔ ــــ من: سے پہلوتہی کرنا، کنی کترانا، پہلو بچانا، بچنا، حذر کرنا، بچنے کی کوشش کرنا۔ تحاشي من یا عن: سے دور رہنا، احتراز کرنا، باز رہنا، پرہیز کرنا۔ ــــ ه /من/عن: سے بچنا، پہلوتہی کرنا، پہلو بچانا، کنی کترانا، بچنا، حذر کرنا۔ حَشْو: جس سے کوئی چیز بھری جائے یا جس میں کوئی چیز ٹھونسی جائے۔ مرغ وغیرہ پر سلاد، چٹنی وغیرہ ڈالنا یا مرغ وغیرہ میں مسالہ بھرنا، دانت بھرنا، ڈالی ہوئی چیز، اندراج، کتاب وغیرہ میں بدنیتی سے الحاق، زائد الفاظ، ملحقات، جملہ معترضہ۔ حَشْوَة جمع حشوات: تکیے وغیرہ بھرنا، کارتوس کا لوڈ کرنا، بارود وغیرہ کی مقدار (دھماکہ کرنے کے لئے)، جڑاؤ کام، زنانے لباس میں دوسرے قسم کا ٹنکا ہوا کپڑا، دروازہ میں لگا ہوا ٹکڑا۔ حَشًا جمع اَحْشَاء: انتڑیاں، اندر کا حصہ، اندرونی حصہ۔ فی احشاء: کے اندر، میں، کے اندرونی حصہ میں۔ حَشّٰی بمعنی حَشَا۔ حَشِيَّة جمع حَشِيَّات و حَشَايَا: تکیہ، گدا، توشک۔ حاشا و حاشَی: (مضاف الیہ یا اسم منصوب یا لِ کے ساتھ) کے سوا، کے سوائے۔ حاشاللّٰه و حاشَی لِلّٰه: خدانہ کرے۔ حاشالكَ أن: خدانہ کرے کہ تم...... تَحْشِيَة: اندراج، شمولیت، الحاق، اضافہ، الحاقی عبارت، تحریف۔ تَحَاشٍ: کنارہ کشی، احتراز، بچاؤ، بچنا۔ حَاشِيَة جمع حَوَاشٍ: بارڈر، کنارہ، سیون، جوڑ، سنجاف، مغزی، گوٹ، جھالر، حاشیہ، کتاب کا حاشیہ، کتاب کے بعض الفاظ یا عبارتوں کی شرح، مزید تشریح، فٹ نوٹ، عبارت مابعد، خدم و حشم، حاشیہ نشین، نوکر چاکر جو کسی شخص کے جلو میں ہوں، خادمین، دست نگر لوگ، جمع حَوَاشٍ: تنقیدی مواد۔ رقیقُ الحاشية و رفیقُ الحَوَاشِي: مہذب، نازک طبع، نفاست پسند، باادب، خوش خلق، خلیق، نیک خو، مہربان، ملنسار، دوستی کا برتاؤ کرنے والا۔ رِقَّةُ الحاشية: نفاست پسندی، خوش خلقی، ملنساری، رحیمی، کریمی۔ مَحْشُوّ: بھرا ہوا، ٹھونسا ہوا، ڈالا ہوا، لوڈ کیا ہوا (آتشین اسلحہ) جمع مَحْشُوات: بھری یا ٹھونسی ہوئی کھانے کی چیزیں۔ مُحَشِّيّ: بھرا یا ٹھونسا ہوا (کھانا)، بھری یا ٹھونسی ہوئی چیز۔

حصّ: ۱۔ حَصَّ ُ حَصًّا الشعرَ: بال مونڈنا۔ ــــ حَصَصًا الرجلُ: کے سر کے بال گرنا یا کم ہونا۔ صفت: احصّ۔ انحصّ الشعر: بال اکھڑنا۔ ــــ ت اللحيةُ: داڑھی کے بالوں کا ٹوٹا ہوا ہونا یا کم ہونا۔ الحَصَص: سر کے بالوں کی کمی، سر کے بالوں کا چھوٹا ہونا۔ الحَاصَّة (طب): بالوں کے گرنے کی بیماری۔ الأحَصّ مونث حَصَّاء: وہ جس کے سر پر بال کم ہوں، وہ جس کے سینہ پر بال نہ ہوں۔ ــــ مِن الطیور: وہ پرندہ جس کے بازوؤں کے پر گر گئے ہوں۔ الحَصِص: گدھے یا اونٹ کے گرے ہوئے بال۔ الحُصَاص (طب): گنجی۔ الحَصِيصَة: مونڈ کر یا اکھیڑ کر جمع کئے ہوئے بال، کان کے بال۔

۲۔ حَصَّ ُ حَصًّا من المال کذا: مال میں سے کوئی حصہ والا ہونا۔ أحَصَّ ه: کو اس کا حصہ دینا۔ حَاصَّ مُحَاصَّةَ الغُرَمَاءَ: قرض خواہوں کا حصے تقسیم کر لینا، بانٹ لینا۔ تَحَاصَّ القومُ الشيءَ: لوگوں کا کسی چیز کے حصوں کا آپس میں تقسیم کر لینا۔ الحِصَّة جمع حِصَص: حصہ۔

۳۔ حَصَّ ُ حَصًّا الشيءَ: کو گھٹانا، سے کاٹ لینا۔ اِنْحَصَّ الذَّنَبُ: دم کا کٹ جانا۔

۴۔ حَصَّ ُ حَصًّا الجليدُ النبتَ: پالے کا سبزہ یا پودے کو جلا دینا۔ سَنَةٌ حَصَّاءُ: وہ خشک سال جس میں روئیدگی نہ پیدا ہو۔

۵۔ اَحَصَّ هُ المکانَ: کو کسی جگہ اُتارنا۔

۶۔ حَصْحَصَ الامرُ: معاملہ کا ظاہر ہونا۔

۷۔ الحُصّ جمع حُصُوص و أحْصَاص: موتی (ن) زعفران، لیموں، لہسن وغیرہ کا علیحدہ ٹکڑا۔ (عام لوگوں کی زبان میں)۔ أحَصّ: یومٌ أحَصّ: سخت سرد دن، جس میں بادل نہ ہوں۔ سیف احَصّ: جو ہر نہ رکھنے والی تلوار۔ الحَصِيص: تعداد۔ کہا جاتا ہے: حَصِيصُهم کذا: ان کی تعداد اتنی ہے۔ الحُصَاص: دوڑنے کی تیزی، گوز۔ الحُصَاصَة: انگور چن لینے کے بعد بیل میں جو کچھ بچ رہے۔

۸۔ حَصْحَصَ حَصْحَصَةً الحقُّ: پوشیدگی کے بعد حق کا ظاہر ہونا۔ ــــ الرجلُ: بیڑی پہنے قیدی کی طرح چلنا۔ ــــ الشيءَ فی الشيءِ: کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں مضبوطی سے بٹھانے کے لئے ہلانا۔ ــــ الترابَ وغیرَهٗ: مٹی وغیرہ کو دائیں بائیں ہلانا۔ تَحَصْحَصَ: زمین سے چمٹنا، برابر ہونا۔ الوبرُ او الزئبرُ: اونٹ کے بالوں یا کپڑے کے روئیں کا ننگا ہونا۔ الحُصْحُص و الحُصْحُوص من الناس: معاملات کی باریکیوں کی ٹٹول کر کے معلوم

کرنے اوران پرقابو پانے والا۔ الحَصْحَص: پتھر۔ ۔ والحَصْحَاص: مٹی۔

○ حَصَّ ۔ حَصًّا ہ: کا حصہ ہونا۔ حَاصَّ ہ ہ: کا کے ساتھ حصہ دار ہونا، حصہ لینا۔ أَحَصَّ ہ: کو اس کا حصہ دینا۔ حُصّ: زعفران۔ حِصَّة جمع حِصَص: حصہ، کوٹا، حصہ رسد، گروہ (لوگوں کا جو کسی اجتماع میں شریک ہوں اور مشترکہ خصوصیات کے حامل ہوں)، گروہ (فوجی دستوں کا جو ایک بڑی فوج کا حصہ ہو)، وقفہ، مدت، عرصہ، سبق، کلاس کا وقت، تقسیم مقررہ حصہ۔ حِصَّةٌ فی الرِبح: منافع جو وقتاً فوقتاً ادا ہو۔ حِصَّةُ التاسیس: بانیوں کا حصہ۔ نظامُ الحِصَص: کوٹا سسٹم، تقسیم حصص، بٹائی، حصہ دہی۔ فی حِصَّةٍ وَجیزَةٍ: تھوڑے وقت میں۔ تَحْصِیص: کوٹا سسٹم، تقسیم حصص، بٹائی، حصہ دہی۔ مُحَاصَّة: تقسیم، حصہ، بٹوارہ، مقررہ حصہ، کا حصہ دار ہونا، شریک ہونا، حصہ لینا، شرکت، اشتراک، شمولیت۔

حصا: حَصَأَ وحَصِئَ ۔ حَصْأً الرضیعُ: شیرخوار بچے کا پیٹ بھر دودھ پینا۔ — من الماء: پانی سے سیراب ہونا۔ أَحْصَأَهُ: کو سیراب کرنا۔

حصب: ا۔ حَصَبَ ۔ حَصْبًا هُ: کو کنکریاں مارنا۔ — وحَصَّبَ المکانَ: کسی جگہ کنکریاں بچھانا اور اس سے فرش تیار کرنا۔ أَحْصَبَ الفرسُ فی عَدْوِهِ: گھوڑے کا دوڑنے میں کنکریاں اُڑانا۔ تَحَاصَبُوا: ایک دوسرے پر کنکریاں پھینکنا۔ الحَصَب: پتھر، چھوٹی پتھریاں، کنکریاں، ایندھن۔ الحَصِبَة: کنکریوں کو اڑانے والی تند ہوا۔ ارضٌ حَصِبَة: بہت کنکریوں والی زمین۔ الحَصْبَاء واحد حَصَبَة: کنکریاں۔ الحَاصِب (فا): کنکریوں کو اڑانے والی تیز ہوا، اولہ، اولے برسانے والا بادل، المَحْصَبَة: بہت کنکریوں والی زمین۔

۲۔ حَصَبَ ۔ حَصْبًا فی الارض: زمین میں جانا۔ — عنه: کسی سے بھاگنے میں تیزی کرنا۔ — هُ عن کذا: کو سے دُور کرنا۔ أَحْصَبَ هُ عن کذا: کو سے دُور کرنا۔ — عنه: سے منہ پھیر کر چلے جانا۔ تَحَصَّبَ الحمامُ: کبوتر کا دانے کی تلاش میں صحرا کی طرف نکلنا۔

۳۔ حَصِبَ ۔ حَصَبًا و حُصِبَ: خسرہ کے مرض میں مبتلا ہونا صفت: مَحْصُوب۔ الحَصْبَة والحَصَبَة والحَصِبَة (طب): خسرہ۔

۴۔ حَصِبَ ۔ حَصَبًا و حُصِبَ الوترُ: تانت کا کمان سے اُلٹ جانا۔

○ حَصَبَ ۔ حَصْبًا ہ: زمین کو سنگریزوں، کنکریوں روڑوں یا روڑی یا بجری سے ڈھکنا یا زمین پر سنگریزے، کنکریاں، روڑے، روڑی یا بجری پھیلانا، (سڑک) کو کنکر اور پتھر سے پکا کرنا۔ حَصِبَ ۔ و حُصِبَ: خسرہ میں مبتلا ہونا، کو خسرہ نکلنا۔ حَصَّبَ ہ: زمین کو سنگریزوں، کنکر، روڑے، روڑی یا بجری سے ڈھکنا، زمین پر کنکروں کی سڑک بنانا، (سڑک) کو کنکر اور پتھر سے پختہ کرنا۔ حَصَب: سڑک کے پتھر، کنکر، روڑی، کنکر جو ریل کی سڑک پر ڈالے جائیں۔ حَصْبَاء: کنکر، سنگریزے، روڑے، روڑی، بجری۔ حَصْبَة: چھوٹی چیچک، خسرہ۔ حَاصِبَة: طوفانی آندھی، ہوا کا تیز جھکڑ، طوفان، طوفان بادوباراں، تیز ہوا، آندھی۔

حصد: ا۔ حَصَدَ ۔ حَصْدًا وحِصَادًا و حَصَادًا و إِحْتَصَدَ الزرعَ: کھیتی کو درانتی سے کاٹنا۔ اسی سے یہ قول ہے: من زرعَ الشرَّ حَصَدَ الندامةَ: جس نے برائی بوئی اس نے ندامت کاٹی۔ صفت: حَاصِد جمع حَصَدَة وحُصَّاد۔ — القومَ بالسیف: لوگوں کو تلوار سے قتل کرنا۔ أَحْصَدَ الزرعُ: کھیتی کی کٹائی کا وقت قریب آنا۔ إِسْتَحْصَدَ الزرعُ: کھیتی کے کاٹنے کا وقت قریب آپہنچنا۔ الحَصَد و الحَصِید و الحَصِیدَة جمع حَصَائِد: کھیتی کا کٹا ہوا حصہ۔ الحِصَاد (مص): کھیتی کاٹنے کا وقت یا موسم۔ الحَصَاد: کھیتی کاٹنے کا وقت یا موسم، کاٹی ہوئی کھیتی، کٹی ہوئی فصل۔ حَصَادُ الشَجَرة: درخت کا پھل۔ کہا جاتا ہے: اَخَذُوا حَصَادَ الشجرة: انہوں نے درخت کا پھل لیا۔ حَصَادُ البقولِ البرِّیَة: ملنے سے جھڑ جانے والے دانے۔ الحَصَّاد: فصل کاٹنے والا۔ الحَصِیدَة جمع حَصَائِد: فصل کی جڑیں جو کاٹنے پر درانتی سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ کھیتی۔ ایّامُ الحصید و ایّامُ الحصیدة: فصل کی کٹائی کا موسم (عام لوگوں کی زبان میں)۔ حَصَائِدُ الألْسِنَة: دوسروں کے بارے میں کہی جانے والی باتیں۔ الأَحْصَد مونث حَصْدَاء: کھڑے ہی کھڑے سوکھ جانے والا پودا۔ المِحْصَد: درانتی۔

۲۔ حَصِدَ ۔ حَصَدًا الحبلُ او الدرعُ: رسی کا مضبوط بٹی ہوئی ہونا، کا مضبوط بنا ہوا زرہ۔ أَحْصَدَ الحبلَ: رسی بٹنا۔ إِسْتَحْصَدَ الحبلُ: رسی کا مضبوط بٹی ہوئی ہونا۔ کہا جاتا ہے: استحصد حَبْلُ الرجلِ: سخت غضبناک ہونا۔ — القومُ: لوگوں کا جتھا بننا۔ الأَحْصَد مونث حَصْدَاء: مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ دِرْعٌ حَصْدَاء: تنگ حلقوں والی مضبوط زرہ۔ شَجَرَةٌ حَصْدَاء: بہت پتوں والا درخت۔

○ حَصَدَ ۔ حَصْدا و حَصَادًا ہ: فصل کاٹنا، گھاس وغیرہ کاٹنا۔ اَحْصَدَ واِحْتَصَدَ و اِسْتَحْصَد: پکنا، پکا ہوا ہونا، تیار ہونا۔ حَصْد و حِصَاد: فصل کی کٹائی، فصل، کٹائی (کی ہوئی) فصل۔ حصاد: کٹائی کا وقت یا موسم۔ حَصِید وحَصِیدَة جمع حَصَائِد: فصل، فصل کی پیداوار، کٹائی۔ قائمٌ و حَصِید: ہر چیز، بلا استثناء۔ حَصَّاد: فصل کاٹنے والا۔ مِحْصَد جمع مَحَاصِد: درانتی۔ حَصَّادَة و مِحْصَدَة: گھاس فصل وغیرہ کاٹنے کی مشین۔ حَصَّادَة دَرّاسَة: فصل کاٹنے اور گاہنے کی مشین۔ حَاصِد: فصل کاٹنے والا۔ حَاصِدہ: گھاس یا فصل کاٹنے کی مشین۔ مَحْصُود: کٹی ہوئی فصل، گھاس۔ مُحْصِد و مُسْتَحْصِد: پکا، پکا ہوا۔

حصر: ا۔ حَصَرَ ۔ حَصْراً هُ: کو تنگ کرنا، گھیر لینا۔ — الشیءَ: چیز کو سارا لے لینا۔ — القومُ بفلان: کو تنگ کرنا۔ حَصِرَ ۔ حَصَراً: گفتگو کرنے میں رکنا، بخیل ہونا۔ — الرجلُ: کا دل تنگ ہونا، دل پر دباؤ محسوس کرنا۔ — بالسرِّ: راز یا بھید کو چھپانا۔ — عن الشیءِ: کسی چیز کو شرم کر کے چھوڑ دینا، سے مراد تک پہنچنا کسی کے لئے مشکل یا ناممکن ہونا، صفت: حَصِر و حَصُور وحَصِیر۔ حُصِرَ: کو قبض ہونا، کا پیشاب رک جانا۔ حَاصَرَوا حِصاراً مُحَاصَرَةً العدوَّ: دشمن کا محاصرہ کرنا، دشمن سے امداد روک لینا۔ أَحْصَرَهُ عن السفرِ: کو سفر سے روکنا۔ — هُ المرضُ او البولُ: کو مرض یا پیشاب کا کچھ کرنے سے روک دینا۔ أُحْصِرَ: کو قبض ہونا۔ إِنْحَصَر: تنگ ہونا، محصور ہونا۔ الحُصْر و الحُصُر (طب): قبض۔ الحِصَار: محاصرہ کی جگہ۔ الحَصِیر جمع حُصُر و اَحْصِرَة: پہلو (کہا جاتا ہے: دابَّةٌ عریضةُ الحَصِیرَین: چوڑے پہلوؤں والا جانور)، شانے سے کمر تک کا گوشت، تنگ جگہ، قید خانہ، قیدی، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہنے والا بادشاہ، بوریا، چٹائی، — من المیاہ: پہاڑ کے جوف میں جمع شدہ پانی جس سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اسی سے حُصُر النفط: تیل کے ذخائر۔ الحَصِیرَة جمع حَصَائِر: بوریا، چٹائی، گھوڑے کے مونڈھے اور پہلو تک کا گوشت۔

۲۔ حَصَرَ ـ حَصْراً البعیرَ و اِحْتَصَرَ البعیرَ: اونٹ کی پیٹھ پر گدیلہ باندھنا۔ الحِصَار: تکیے کی مانند چیز جس کو اونٹ کی پیٹھ پر ڈال کر اس پر سواری لیتے ہیں۔ المِحْصَرة: گدیلا (اونٹ کا)۔

۳۔ الحَصِیر جمع حُصُر و اَحْصِرَة: راستہ، لوگوں وغیرہ کی صف یا قطار، مجلس۔ المُحْتَصِر: شیر۔

۴۔ حَصُرَ الحبلَ: رسی کو مضبوط بٹنا۔ ـــ القوسَ: کمان کو سختی سے کسنا۔ ـــ القِربَةَ: مشک کو بھرنا۔ ـــ القَلَمَ: قلم کو تراشنا۔ تَحَضْرَمَ: بخیل اور تنگ دل ہونا۔ الحِصْرِم: سخت بخیل۔ ـــ واحد حِصْرِمَة: پہلا سبز اور کھٹا انگور یا عموماً کچا پھل۔ پستہ قد، (ہر چیز کا) گھٹیا۔

○ حَصَرَ ـ حَصْراً ہ: کو گھیرنا، کے گرد گھیرا ڈالنا، کو گھیرے میں لینا، حلقے میں لینا، کے گرد حلقہ ڈالنا، کو محصور کرنا، کا احاطہ کرنا، کو ملفوف کرنا، (لفظ) کو قوسین کے اندر رکھنا۔ ـــ ہ/ہ: کی ناکہ بندی کرنا، کے گرد گھیرا ڈالنا، کو گھیرنا، کا محاصرہ کرنا، کو نرغے میں لینا۔ ـــ ہ: کو روک رکھنا، باز رکھنا، حراست میں رکھنا، قید میں رکھنا، حد کے اندر رکھنا، کو گھیرنا، کو روک کے رکھنا۔ ـــ ہ فی/ب: کو تنگ محدود رکھنا۔ ـــ ہ: کو مختصر لفظوں میں بیان کرنا، کو دسترس یا رسائی میں کم کرنا۔ ـــ ہ فی: کو کسی حد میں رکھنا، روکنا، کو میں محدود کرنا، کو عنوان یا سرخی کے تحت ترتیب دینا، جمع کرنا۔ ـــ ہ فی: کو فہرست میں درج کرنا۔ ـــ ہ: کو شمار کرنا، گننا، کی فہرست بنانا، کی فرد تیار کرنا، کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، کو جوڑنا، ملانا، پر مشتمل ہونا، کو شامل ہونا، کو محیط ہونا۔ حَصِرَ ـ حَصَراً: مشکل میں ہونا، گومگو کی حالت میں ہونا۔ حَاصَرَ ہ/ہ: کو گھیرے میں لینا، کا محاصرہ کرنا، کے گرد گھیرا ڈال لینا، کو الگ رکھنا، تنہائی میں رکھنا، بند کرنا، منقطع کرنا، کی ناکہ بندی کرنا۔ ـــ ہ: کو روکنا، باز رکھنا، بٹھائے رکھنا، کے سدِ راہ ہونا، کو قابو میں رکھنا۔ اِنْحَصَرَ: مشکل میں ڈالا جانا، مصیبت میں مبتلا کیا جانا، قید میں ہونا، تنگ ہونا۔ ـــ فی/ب: تنگ محدود ہونا یا ہو جانا، اپنے کو تنگ محدود رکھنا۔ ـــ فی: چند لفظوں میں بیان ہونا، میں مرکوز ہونا۔ ـــ تحت حُکْمِہٖ: کی حکومت کے تحت متحد ہونا یا ہو جانا۔ ـــ فی: کی حالت میں لائے جانے کے قابل ہونا، میں قابل تحویل یا قابل تحویل ہونا، کی بنیاد پر یا کے بارے میں کہنے کے قابل یا قابل اظہار ہونا، پر مشتمل ہونا۔ حَصْر: گھیر لینا، محصور کر لینا، کے گرد حلقہ ڈالنا، باڑے میں لیجانا، باڑہ لگانا، احاطہ بندی کرنا، جملہ معترضہ کے طور پر داخل کرنا، قوسین کے اندر رکھنا، محاصرہ، محاصرہ کرنا، گھیرنا، ناکہ بندی کرنا، گھیرا ڈالنا، نرغے میں لینا، گرفتاری، قید، حراست، روک، مزاحمت، باز رکھنا، مانع ہونا، پابندی، دباؤ، ممانعت، حدود کے اندر رکھنا، تحدید، جانچ پڑتال، روک تھام، حد بندی، بندش، پابندی، قید و بند، تنگ ہونا یا کرنا، (بکھری ہوئی چیز کو) جمع کرنا، اکٹھا کرنا، تالیف، تدوین، گنتی، شمار، فہرست، بنانا، فرد تیار کرنا، شمار کرنا، حساب لگانا، گننا، خود کو مرکز کے تحت لانا، مرکزیت پیدا کرنا، ارتکاز، ایک مرکز پر جمع ہونا، (تمباکو کی) اجارہ داری۔ بِالحَصْر: پکی بات تو یہ ہے، درحقیقت، لگی لپٹی رکھے بغیر۔ علی سبیل الحصر: مکمل طور پر۔ حصر التموین: راشن بندی، راشن مقرر کرنا، راتب مقرر کرنا، حصہ رسدی مقرر کرنا۔ علامة الحصر: قوسین، واوین، جملہ معترضہ کی علامت۔ لا یدخل تحت الحصر یا لا حَصْرَ له یا یفوق الحصرَ: بے حد، بے انت، بے انتہاء، بے پایاں، بے شمار، لامحدود، بے شمار، بے نہایت، بے اندازہ، بے قیاس، عقل و ادراک سے بالاتر۔ اجازة الحصر: کسی ایجاد پر سرکاری حکم سے موجد کو چند سال کے لئے ملنے والے جملہ حقوق patent on an invention۔ ادارة حصر التبغ و التنباك: تمباکو پر حکومت کی اجارہ داری۔ ـ حصر: پیشاب کی بندش، قبض۔ حَصَر: موثر طور پر اظہارِ خیال سے معذوری۔ حَصِیر: بوریا، چٹائی جمع حُصُر۔ حَصِیرة جمع حصائِر: چٹائی بوریا۔ حِصَار: ناکہ، محاصرہ، راستہ روکنا، ناکہ بندی۔ مُحَاصَرة: روکنا، راستہ روکنا، محاصرہ، ناکہ۔ اِنحصار: پابندی، حد بندی، قید، بندش، قید و بند، (تمباکو کی) اجارہ داری۔ مَحْصُور: روکا ہوا، رکاوٹ ڈالا ہوا، محاصرہ کیا ہوا۔ ـــ فی: تنگ محدود۔

○ حِصْرِم: کچے اور کھٹے (انگور)۔ واحد حِصْرِمَة۔

حصف: ا۔ حَصُفَ ـ حَصَافَةً: عمدہ رائے اور پختہ سمجھ والا ہونا، صفت: حَصِف و حَصِیف۔ أَحْصَفَ الامرَ: کام کو مضبوطی اور مہارت سے کرنا۔ ـــ النسیجَ: مضبوط بُننا۔ اِسْتَحْصَفَ الشیءُ: مضبوط ہونا۔ ـ الحبلُ: رسی کو مضبوط بٹنا۔ ـ الدهرُ علیه: پر زمانہ کا سخت ہونا۔ الحَصِیف: ہر مضبوط شے جس میں کوئی خلل نہ ہو۔

۲۔ حَصِفَ ـ حَصَفاً: کو خشک کھجلی لگ جانا۔ الحَصَف (طب): خشک کھجلی، خشک خارش۔

۳۔ حَصَفَ ـ حَصْفاً ہُ: کو دور کرنا۔ أَحْصَفَ ہُ: کو دور کرنا۔

۴۔ اَحْصَفَ: تیز دوڑنا۔ صفت: مُحْصِف و مِحْصَف و مِحْصَاف۔

۵۔ اِسْتَحْصَفَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔

○ حَصُفَ ـ حَصَافَةً: دانشمندانہ رائے والا ہونا، معاملہ فہم ہونا، مدبر ہونا، ذی شعور ہونا، صاحب تمیز ہونا۔ حَصِف: دانشمندانہ رائے والا، معاملہ فہم، مدبر، ذی شعور، صاحب تمیز۔ حَصَافَة: دانشمندانہ رائے، معاملہ فہمی، تدبر۔

حصل: ا۔ حَصَلَ ـ حُصُولاً و مَحْصُولاً الشیءُ: حاصل ہونا، ثابت ہونا، باقی رہنا۔ کہا جاتا ہے: حصل علیه من حَقّی کذا: اس پر میرا اتنا حق باقی رہا۔ ـــ لی علیك کذا: میرا اتنا تجھ پر ثابت ہوا یا واجب ہوا۔ تَحَصَّلَ الشیءُ: ثابت ہونا۔ الحاصِل جمع حَوَاصِل: صاف چاندی۔ ـــ من کل شیءٍ: ہر شے کا بقیہ۔ (ع ح) حاصل ضرب (حساب میں)۔ الحَصَل و الحُصَالَة (ز): کھلیان سے غلہ اٹھا لینے کے بعد رہ جانے والے دانے۔ التَّحْصِیل: حاصل کیا ہوا مال۔ الحَصِیلَة جمع حَصَائِل: بقیہ۔

۲۔ حَصَلَ ـ حُصُولاً و مَحْصُولاً له کذا: کیلئے کچھ واقع ہونا۔

۳۔ حَصَلَ ـ حُصُولاً و مَحْصُولاً عنده کذا: کے پاس کچھ پایا جانا۔ ـــ علی الشیءِ: کو جمع کرنا، حاصل کرنا، اس کا مالک ہونا۔ حَصَّلَ الشیءَ او العلمَ: چیز یا علم حاصل کرنا۔ ـــ الکلامَ: تقریر یا کلام کا خلاصہ کرنا۔ ـــ الدَّیْنَ: قرض جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تَحَصَّلَ مِن المسئلة کذا: کسی مسئلہ سے دوسرا مسئلہ نکالا جانا۔ تَحَصَّلَ الشیءُ: اکٹھا ہونا۔ الحاصِل جمع حَوَاصِل (فا): مخزن۔ اسی سے ہے: حاصِلُ عینِ الماء: پانی کی ٹنکی یا حوض۔ الحَصِیلة جمع حَصَائِل: تحصیل کا اسم۔ حاصل کردہ چیز۔ کہا جاتا ہے: ما حَصِیلَتُكَ و ما حَصَائِلُكَ؟ تمہارا حاصل کیا ہوا کیا ہے؟ المَحْصُول: حاصل (کہا جاتا ہے: هذا محصولُ کلامِه: یہ اس کے کلام کا مفہوم و معنی ہے۔ ما لفلان محصول و لا معقول: فلاں شخص کی نہ کوئی رائے ہے اور نہ ہی تمیز) فائدہ، نفع، پیداوار۔

۴۔ حَصِلَ - حَصَلاً تِ الدابّةُ: جانور کا مٹی یا کنکر کھانے سے پیٹ کے درد میں مبتلا ہونا۔ ــ الفرسُ: نباتات کی مٹی کھانے سے گھوڑے کا پیٹ کے درد میں مبتلا ہونا۔ الحَصِیل (ن): ایک قسم کی نباتات۔

۵۔ حَصَّلَ و أَحْصَلَ النخلُ: کھجور کا نیم پختہ پھل والا ہونا۔ الحَصَل واحد حَصَلَة: نیم پختہ کھجور، کھجور کا سبز رسدار پھل جو گر کر بکھر جائے۔

○ حَصَلَ - حُصُولاً: شروع ہونا، موجود ہونا، اچانک موجود ہونا، واقع ہونا، پیدا ہونا، سامنے آنا، ظہور میں آنا، نتیجہ ہونا، ظاہر ہونا، پیش ہونا، درپیش ہونا۔ ــ ل: کو پیش آنا، کو خیال آنا، سے اتفاقاً دوچار ہونا، یا کو اچانک پانا، کو اچانک آلینا۔ ــ من: سے نکلنا، وجود میں آنا، مشتق ہونا۔ ــ علی: کو حاصل کرنا، جیتنا، پر قابض ہونا، پرمٹ، پروانہ، اجازت مانگنا، چاہنا، پرمٹ، پروانے یا اجازت کے لئے درخواست دینا، (قرض) جمع کرنا، واپس لینا، وصول کرنا، کی واپسی کا حکم دینا یا کی واپسی کی درخواست کرنا۔ حَصَّلَ ہ: کے واقع ہونے یا شروع ہونے کا باعث ہونا، کو حاصل کرنا، نتیجہ پر پہنچنا، حقائق تک پہنچنا، (فیس، کرایہ) وغیرہ جمع کرنا، (ٹیکس فیس وغیرہ) لگانا، عائد کرنا، روپیہ پیسہ کی واپسی کا مطالبہ کرنا، کا خلاصہ کرنا، کی تلخیص کرنا۔ تَحَصَّلَ من: کے نتیجہ میں واقع ہونا، کی مقدار کا ہونا۔ ــ: حاصل ہونا، مطلوب ہونا، عائد ہونا، لگنا، مطالبہ کیا جانا، فیس ٹیکس وغیرہ کا دستیاب ہونا، ٹیکسوں کا جمع ہونا۔ ــ علی: کو حاصل کرنا، وصول کرنا، (فیس) کو اکٹھا کرنا۔ اِسْتَحْصَلَ علی: کو حاصل کرنا، وصول کرنا۔ حُصُول: آغاز، شروع، وقوع، واقعہ، حادثہ، ماجرا۔ ــ علی: کا حصول، اکتساب، یافت، کو پالینا، کی تکمیل، تحصیل۔ حَصِیلة جمع حَصائِل: بقیہ، جمع شدہ رقم، نفع، منافع، آمدنی، مالیہ، وصولی (جمع وصولیاں)، پیداوار، کل آمدنی، مجموعی یافت۔ حَصّالة: چندہ، خیرات جمع کرنے کا صندوق۔ تحصیل جمع تحصیلات: حصول، یافت، اکتساب، نفع، فائدہ، حصول (علم)، مطالعہ، علمی مطالعات، (مالیاتی وسائل، ٹیکسز کو) اکٹھا کرنا، فراہم کرنا، جبراً وصول کرنا، لگانا، عائد کرنا، آمدنی، مالیہ، وصولی (جمع وصولیاں) منافع، آمدنی، (تقریر رائے وغیرہ کا) خلاصہ، تلخیص، اہم نکات، ماحصل۔ تحصیل الحاصل ان یقال: مختصراً یہ کہ، یہ کہا جا سکتا ہے کہ...... تحصیلجی: محصل، کلکٹر، ٹیکس کلکٹر، خزانچی، بس کنڈکٹر۔ حاصِل جمع حواصل: آغاز، شروع، وقوع، واقع ہونا، نتیجہ، میزان، رقم، حاصل ضرب، مالیہ آمدنی، وصولیاں، نفع، فائدہ، فصل، گودام، کوٹھی (اناج کی)، مال خانہ، مخزن، اسلحہ خانہ، تقریر وغیرہ، اہم مضمون، مفہوم، منشا، اہم نکات، ماحصل، ملخص، روح، لب لباب۔ محصول جمع محصولات و محاصیل: نتیجہ، پیداوار، فصل۔ مُحَصِّل: دیکھو تحصیلجی۔ مُتَحَصِّل من: سے پیداوار، وصولیاں، مالیہ، منافع، آمدنی۔

حصن: ا۔ حَصُنَ - حَصَانَةً: محفوظ ہونا، صفت: حَصِین۔ حَصَّنَ - حَصَّنًا ہُ: کو محفوظ جگہ میں رکھنا۔ حَصَّنَ و أَحْصَنَ المکانَ: کسی جگہ کو ناقابل تسخیر بنانا۔ تَحَصَّنَ: اپنے لئے قلعہ بنانا۔ ــ الفرسُ: گھوڑے کا اصیل ہونا۔ الحِصْن جمع حُصُون و أَحْصان و حِصَنة (اع): محفوظ و مضبوط جگہ، ہتھیار۔ ابُو الحُصَین (بصورت تصغیر): لومڑی۔ الحِصَان جمع أَحْصِنَة و حُصُن: اصیل گھوڑا، نر گھوڑا۔ الحَصِین من الاماکن: مضبوط جگہ۔ دِرْعٌ حَصِین: مضبوط زرہ۔ کہا جاتا ہے: حِصْنٌ حَصِینٌ: مضبوط قلعہ۔ المُحْصَن: محل، تالا، قفل۔ الحَصَانة: قوت، طاقت، مستحکم ہونا، ناقابل تسخیر ہونا، متعدی بیماریوں سے مامون ہونا۔ الحَصَانة النیابیة: غیر ممالک میں سفارت کاروں کا امتیازی حق جس کی بنا پر انہیں گرفتار نہیں کیا جاسکتا اور نہ ان سے کوئی ٹیکس لیا جاسکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

۲۔ حَصُنَ - حُصْنًا و حِصْنًا و حَصَانَةً ت المرأةُ: عورت کا پاکدامن ہونا۔ صفت حَصَان جمع حُصُن و حَصَانات و حاصِن و حاصِنَة جمع حَوَاصِن و حاصِنات و حَصْناء، أَحْصَنَ ت المرأةُ: پاکدامن ہونا، شادی شدہ ہونا۔ صفت: مُحْصَنَة۔ أَحْصَنَ الرجلُ: شادی شدہ ہونا صفت: مُحْصَن۔ ــ المرأةَ: کسی عورت سے شادی کرنا۔ تَحَصَّنَ ت المرأةُ: عورت کا پاکدامن ہونا۔

۳۔ الحَصان: موتی۔ المِحْصَن: زنبیل۔

○ حَصُنَ - حَصَانَةً: ناقابل رسائی ہونا، اچھی طرح قلعہ بند ہونا، مستحکم ہونا، عورت کا پاکدامن ہونا۔ حَصَّنَ ہ: کو ناقابل رسائی بنانا، کو مضبوط کرنا، کو قلعہ بند کرنا، مستحکم کرنا، کو خندق سے محفوظ کرلینا۔ ــ ضِدَّ: سے محفوظ کرنا، بچادینا، مستثنیٰ کرنا، بے خوف کردینا۔ أَحْصَنَ ہ: کو ناقابل رسائی بنانا، کو قلعہ بند کرنا، خندق سے محفوظ کرنا۔ ــ: عورت کا پاکدامن ہونا، پاکدامن رہنا، بے داغ شہرت والی ہونا۔ تَحَصَّنَ: اپنی جگہ کو مستحکم کرنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا، قلعہ بند ہونا، محفوظ ہونا، مامون ہونا۔ حِصْن جمع حُصُون: قلعہ، قلعہ بند شہر، محل، بالا حصار، پناہ گاہ، گڑھی، گڑھ، مضبوط مرکز، حصار، قلعہ بندی، شہر کے ارد گرد کی خندقوں کے ذریعہ حفاظت، حفاظت۔ حِصَان جمع حُصُن و أَحْصِنَة: گھوڑا، نسل کشی والا گھوڑا، نر اسپ۔ حِصانُ البحر: دریائی گھوڑا۔ حِصان کاری: آہنی گھوڑا۔ حِصَان یا قوةُ حِصان: ہارس پاور۔ حَصِین: ناقابل رسائی، مضبوط، سخت قلعہ بند، محفوظ، مامون۔ ــ ضِدّ: سے محفوظ، جس کو زخم یا ضرر نہ پہنچایا جاسکے، بچا ہوا، کا شکار نہ ہونے والا، کا اثر قبول نہ کرنے والا۔ الحِصْنُ الحَصِین: (انقلابی سیاست کا) گڑھ، مضبوط مرکز۔ ابو الحُصَین: لومڑی۔ حِصَانة: قوت، طاقت، کرختی، ممانعت، قدغن، استحکام، ناقابل تسخیر ہونا، پہنچ سے باہر ہونا، (عورت کی) پاکدامنی، سفارت کاروں، نمائندوں وغیرہ (کی بیماری وغیرہ سے) حفاظت۔ اِحْصَان: بے داغ شہرت، بے قصوری، بے گناہی، دیانت، دیانتداری، ایمانداری۔ مُحَصَّن: قلعہ بند، خندق سے محفوظ کیا ہوا (شہر)۔ ــ ضد: سے محفوظ، بچا ہوا، مستثنیٰ۔ مُحْصَنَة: پاکدامن، بے داغ شہرت والی عورت۔

حصا: حَصَا - حَصْوًا ہُ: کو روکنا، منع کرنا۔

حصی: ا۔ حَصَی - حَصْیًا الرجلَ: کو کنکری سے مارنا۔ حَصِیَ - حَصًا تِ الارضُ: زمین کا بہت کنکری والا ہونا، صفت: مَحْصَاة۔ حُصِیَ (طب): کے مثانہ میں پتھری پیدا ہو جانا، صفت: مَحْصِیّ۔ الحَصَی واحد حَصَاة جمع حَصَیات و حُصِیّ و حِصِیّ: کنکریاں، پتھریاں۔ طَرْقُ الحَصَی: جادو میں کہانت کا ایک عمل۔ الحَصَاة (طب): مثانہ کی پتھری۔ ارضٌ حَصِیَّةٌ: بہت کنکریوں والی زمین۔ نَهْرٌ حَصَوِیّ: بہت کنکریوں والی ندی، نہر۔

۲۔ حَصَّی تَحْصِیَةً ہُ: کو بچانا۔ تَحَصَّی: بچنا۔

۳۔ أَحْصَی الشیءَ: کو شمار کرنا، گننا۔ کہا جاتا ہے: هذا امرٌ لا أُحْصِیه: یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی مجھے طاقت نہیں۔ الحَصَاة: عدد، عقل، رائے۔ الحَصِیّ: بڑا عقلمند۔ الإحصاء: مردم شماری۔

○ أَحْصَی ہ من: کو سے شمار کرنا، کا سے حساب کرنا، لگانا۔ ــ ہ علی: کو کے بارے میں گھٹیا رائے

رکھنے دینا یا کے مخالف احساس دلانا۔ لا یُحْصَی: ان گنت، بے شمار۔ حَصَاۃ و حَصَوَۃ جمع حَصَیات: پتھری، کنکری، (مثانہ وغیرہ کی) پتھری۔ حَصَاۃ لُؤلِیَۃ: مثانے کی پتھری۔ حَصَاۃ صَفرَاوِیَۃ: پتے کی پتھری، سنگ مثانہ۔ حَصَی لُبان و حصالبان: ایک قسم کی سدابہار جھاڑی جس کے پھول خوشبودار ہوتے ہیں۔ حَصَوِی: پتھر کا، پتھری کے متعلق، کنکریوں، سنگریزوں کا یا ان کے متعلق۔ اِحصَاء جمع اِحصَاء: شمار، شمار کرنا، گنتی، اعداد و شمار۔ اِحصَاء السُّکَّان: مردم شماری۔ اِحصَائی: اعداد و شمار کے متعلق جمع احصائیون: اعداد و شمار کا ماہر۔ اِحصَائِیَۃ جمع احصائیات: اعداد و شمار (statisitics)۔

حضّ: ۱۔ حَضَّ ـ حَضًّا و حَضَّضَہٗ علی الامر: کو کسی کام پر اُکسانا، کوئی ترغیب دینا۔ تَحَاضَّ القومُ: ایک دوسرے کو اکسانا۔ اِحتَضَّ نفسَہٗ: خود سے زیادتی کا طالب ہونا۔ الحُضّ و الحضِیض و الحُضِّیضی: حضّ کا مصدری اسم۔

۲۔ الحَضَض: چیز (اس لفظ کا استعمال نفی کے بعد ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: ما عندہ لا حَضَض ولا بَضَض: اس کے پاس کچھ نہیں۔ الحُضَی: دامن کوہ میں ملنے والا پتھر۔ الحَضِیض جمع اَحِضَّۃ و حُضُض: دامن کوہ (فلک) اوج کے مقابل نقطہ۔ الحَضِیضَۃ: مملوکہ شئے۔ آپ کہتے ہیں: اَخرجتُ الیہ حَضِیضتی و بَضِیضتی: جو کچھ میری ملک میں تھا وہ سب میں نے نکال کر اس کے لئے رکھ دیا۔ الحُضُوضی: دوری، آگ۔

۳۔ حَضَّ ـ حَضًّا و حَضَّضَ ہ علی: کو پر اُکسانا، کو کی مہمیز دینا، کو کچھ کرنے پر اکسانا۔ حَضّ: اکسانا، ابھارنا، اشتعال دلانا، ترغیب، تحریص، لالچ، آمادہ کرنا، انگیخت، شہ دینا، ابھارنا، تحریک دینا۔ حضیض و حُضُض و اَحِضَّۃ: دامن کوہ، نشیبی علاقہ، چاند کا وہ نقطہ جو زمین سے قریب تر ہو، گہرائی، بوسیدگی، تنزل کی حالت۔ نزل اِلی الحضیض: نیچے گرنا (مجازاً)۔ دکّہ اِلی الحضیض: کو مکمل طور پر تباہ کر دینا۔

حضب: ۱۔ حَضَبَ ـ حَضْبًا و اَحضَبَ النارَ: آگ میں ایندھن ڈالنا، لکڑیاں ڈالنا۔ الحَضَب والحِضْب: لکڑی، ایندھن۔ المِحضَب: کریلنی، آگ ہلانے کی لکڑی۔

۲۔ تَحَضَّبَ: ناہموار اور قریب ترین راستہ اختیار کرنا۔

۳۔ الحُضْب و الحِضْب جمع اَحْضَاب: کمان کی آواز، دامن کوہ، پہاڑ کا پہلو۔

حضج: ۱۔ حَضَجَ ـ حَضْجًا النارَ: آگ جلانا۔ اِنحَضَجَ الرجلُ: غصہ سے آگ بگولا ہونا۔ المِحضَج: آگ ہلانے کی لکڑی۔

۲۔ حَضَجَ ـ حَضْجًا بفلانٍ: کو پچھاڑنا۔ ـــ بہ الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔ ـــ الشیءَ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا۔ المِحضَاج: کپڑے دھونے کی موگری۔

۳۔ حَضَجَ الکلامَ: گفتگو میں کوتاہی کرنا۔

۴۔ اِنحَضَجَ: کشادہ پیٹ والا ہونا۔ الحُضَاج: جھکی ہوئی پیٹھ اور نکلے ہوئے پیٹ والا۔ الحِضَاج: بھری ہوئی بڑی مشک۔ المِحضَاج من النساء: چوڑے پیٹ والی عورت۔

حضر: ۱۔ حَضَرَ ـ حُضُوراً و حَضَارَۃً: حاضر ہونا، موجود ہونا۔ حَضَرَ ـ حُضُوراً المجلسَ: مجلس میں حاضر ہونا۔ کہا جاتا ہے: حضرت الامرَ بخیر: میں نے معاملہ میں ایک صحیح رائے کا خیال کیا۔ ـــ ہٗ: کو حاضر کرنا۔ حَضِرَ ـ حُضُوراً المجلسَ: مجلس میں حاضر ہونا۔ حَضَّرَ و اَحْضَرَہٗ: کو حاضر کرنا۔ حَاضَرَ مُحَاضَرَۃً و حِضَاراً ہٗ: کو ترت سوچا ہوا جواب دینا۔ ـــ الجوابَ: حاضر جواب ہونا۔ تَحَضَّرَ و اِحْتَضَرَ: حاضر ہونا۔ ـــ الرجلَ: کو حاضر کرنا۔ اِسْتَحْضَرَ الشیءَ: کو حاضر کرنا۔ الحَضَر و الحَضْرَۃ: حاضری، موجودگی، حاضر ہونے کی جگہ، نزدیکی (کہا جاتا ہے: کنتُ بحضرۃ الدار: میں گھر کے نزدیک تھا)، پہلو، صحن۔ الحَضِر: حاضر جواب، صاحب بیان۔ الحَظِر: لوگوں کے وقت کی تاک میں رہنے والا اور وقت پر آ موجود ہونے والا، طفیلی آدمی۔ الحَضْرَۃ: موجودگی۔ کہا جاتا ہے: کلّمتہ بحضرۃ فلانٍ: میں نے فلاں شخص کی موجودگی میں اس سے بات کی۔ حضرۃ کا لفظ اس ذی مرتبہ آدمی کے لئے مستعمل ہوتا ہے جو مرجع خلائق ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے: الحضرۃُ العالیۃ تأمر بکذا: حضرت عالی ایسا حکم دیتے ہیں۔ الحُضْرَۃ و الحِضْرَۃ و الحَضَرَۃ: حاضری کی حالت (کہا جاتا ہے: فلانٌ حسن الحضرۃ: فلاں شخص کی حاضری بھلائی کی حاضری ہے)، نزدیکی، پہلو، صحن۔ الحاضرۃ جمع حواضر: حاضر کا مؤنث۔ المَحْضَر جمع محاضر: حاضری (کہا جاتا ہے: فلانٌ حسن المَحضَر: فلاں شخص غیر حاضر شخص کو اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے)، لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ (کہا جاتا ہے: کان ذلک بِمَحضَرٍ مِن فلانٍ: یہ فلاں شخص کی موجودگی میں ہوا)، حاضرین، حاضر ہونے والے لوگ۔ مَحضَرُ الضبط (عدالتوں کی اصطلاح میں) واقعاتی معلومات کی دستاویز۔ المَحْضُور (مفع): بہت خراب ہونے والا۔ بہت آفت والا، کہا جاتا ہے: لبنٌ محضورٌ: بہت خراب ہونے والا دودھ، بہت آفت والا دودھ۔ المُحتَضَر: بہت آفت والا، کہتے ہیں: اللبنُ مُحتَضَرٌ فغطِّ اِناءَکَ: دودھ کے لئے بہت آفت ہے، اس لئے اپنے برتن کو چھپاؤ۔

۲۔ حَضَرَ ـ حُضُوراً و حَضَارَۃً الوقتُ: وقت کا آنا۔ کہا جاتا ہے: حضرتِ الصلاۃُ: نماز کا وقت آ گیا۔ ـــ ہُ الموتُ: کو موت آ جانا۔ ـــ ہ الامرُ: کے دل میں کوئی بات آنا۔ ـــ الیہ: کے پاس آنا۔ حَضَرَ و حَضَّرَ و اَحْضَرَ ہُ الشیءَ: کے پاس کوئی چیز حاضر کرنا، کے پاس کوئی چیز لانا۔ حُضِرَ: کو موت آنا، صفت: مَحْضُور۔ تحضرہُ الھمُّ: کو غم لاحق ہونا۔ اُحْتُضِرَ: کو موت آنا، قریب المرگ ہونا۔ اِسْتَحْضَرَ الشیءَ: کی حاضری چاہنا، کو طلب کرنا، منگوانا۔ المُحْتَضَر: قریب المرگ۔

۳۔ حَضَرَ ـ و حَضِرَ ـ حُضُوراً عن المکان: کسی جگہ سے منتقل ہونا۔

۴۔ حَضَرَ ـ حَضَارَۃً: شہر میں رہنا۔ تَحَضَّرَ البدویُّ: شہری کی طرح بننا۔ الحَضَر: شہر آباد مقامات۔ اس کے مقابل البَدْو و البَدَاوۃ اور البادیۃ۔ کہا جاتا ہے: ھذا من کلام الحاضرۃ و لم ار البوادی لفظوا بہ و لا عرفوہ: یہ شہریوں کا کلام ہے۔ اہل بادیہ نہ اس کو بولتے ہیں اور نہ اس کو جانتے ہیں۔ الحَضِر: سفر کا ارادہ نہ رکھنے والا یا سفر کی استطاعت نہ رکھنے والا۔ الحاضِر (فا) جمع حُضَّر و حُضَّار و حُضُور و حَضَرَۃ: شہر کا رہنے والا، بڑا قبیلہ، یہ جمع ہے جس طرح حاج حاجیوں کے لئے آتا ہے۔ الحَضَارَۃ: شہری و دیہاتی علاقہ۔ ـــ والحِضَارَۃ: شہروں اور دیہاتوں میں سکونت، تمدن، تہذیب، کلچر۔ الحَضَرِیّ: شہری، دیہاتی۔ الحَاضِرَۃ: شہر، آبادیات مقامات۔ ـــ جمع حواضر: بڑا شہر، ہم کہتے ہیں: حاضرۃ الفاتیکان: روم میں پاپائے اعظم کے رہنے کی عمارتوں کے مجموعہ کا

شہر یا رومن کیتھولک گرجا کے انتظامی مرکز کا شہر۔ الحَضِيرَة جمع حَضَائِر و حَضِير: لوگوں کی جماعت۔ بعض کے نزدیک اصل میں اس لفظ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو پانیوں پر آکر مستقل طور پر قیام پذیر ہو جائیں۔ المُحْتَضِر: شہری، شہر میں آنے والا۔

۵۔ حَاضَرَ مُحَاضَرَةً و حِضَاراً ہُ: سے مقابلہ کرنا، کے ساتھ دوڑنا۔ أَحْضَرَ الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ إِحْتَضَرَ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔ إِسْتَحْضَرَ الفرسَ: گھوڑے کو دوڑانا۔ الحُضْر: گھوڑے کی تیز دوڑ۔ المِحْضَار و المِحْضِير جمع مَحَاضِير من الخيل و غيرها: بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا وغیرہ۔

۶۔ حَاضَرَ: لیکچر دینا۔ المُحَاضَرة: لیکچر۔

۷۔ جَمَعَ الحَضَرَةَ: تعمیراتی سامان اکٹھا کر کے مکان بنانے کا ارادہ کرنا۔ الحَاضِرَة جمع حَوَاضِر: ہاتھی کا کان۔ المَحْضَر جمع مَحَاضِر: رجسٹر، طومار، سجل۔ الحَضِيرَة جمع حَضَائِر و حَضِير: کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ، زخم کا مواد جیسے پیپ، مقدمۃ الجیش (ا ع)، فوجیوں کا ٹولا۔

۸۔ حَضْرَمَ لِحاءَ الشجر: درخت کی چھال اُتارنا۔ ـــ القوسَ: کمان کو مضبوط کسنا۔ ـــ في الكلام: کلام کے اعراب یا لفظوں کی حرکات میں غلطی کرنا۔ ـــ الشیءَ: کو ملانا، خلط ملط کرنا، لکنت والا ہونا۔ المُحَضْرَم: وہ مسلمان یا شاعر جس نے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں پائے ہوں۔ الحَضْرَمِيَّة: کلام میں لکنت، حضرموت کی طرف منسوب۔

○ حَضَرَ ـُ حُضُوراً ہ: کسی جگہ حاضر ہونا۔ ـــ ہ: کے پاس موجود ہونا، ـــ ہ: میں جانا، حاضر ہونا۔ ـــ ہ: کے ذہن میں موجود ہونا۔ ـــ ہ: کو بآسانی یاد کرنا۔ ـــ مجلسًا: اجلاس میں حصہ لینا، شرکت کرنا۔ ـــ ہ/ہ/الی: کے پاس آنا، پہنچنا۔ ـــ ہ/الی: کسی جگہ پہنچنا۔ ـــ ہ: کسی جگہ جانا، کسی عوامی کھیل، واقعہ میں حاضر ہونا، کسی کرتب وغیرہ میں جانا۔ ـــ امامَ...... إلی: کسی جج کے سامنے کسی جگہ پیش ہونا۔ ـــ إلی: میں جانا۔ ـــ من إلی: سے تک جانا۔ ـــ حضارةً: کسی متمدن علاقہ میں رہنے لگنا، آباد ہونا۔ حَضَّرَ ہ: کو تیار کرنا (نیز دوا تیار کرنا)۔ ـ: کو بنانا، ـ ہ: (سبق) پڑھنا، تیار کرنا۔ ـ ہ/ہ: کو لانا۔ ـ ہ: کو مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ ـــ ہ: کو آباد کرنا، بٹھانا۔ ـــ ہ/ہ: کو مہذب بنانا، متمدن بنانا۔ حَاضَرَہ: کو لیکچر دینا، کو لیکچر میں کچھ پیش کرنا۔ ـ: لیکچر دینا، سلسلہ خطابات دینا۔ أَحْضَرَ ہ/ہ: کو لانا۔ ـ ہ: کو مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ ـ ہ/ہ الی: کو کسی جگہ لیجانا۔ أَحْضَرَہُ معه: کو ساتھ رکھنا، ساتھ لانا۔ تَحَضَّرَ ل: کے لئے تیار ہونا۔ ـ: تیار ہونا، کسی متمدن علاقہ میں آباد ہونا، رہنا، مہذب یا متمدن ہونا، تہذیب و تمدن کی حالت میں ہونا، شہریت اختیار کرنا، شہری بن جانا۔ إِحْتَضَرَ ہ: کے پاس آنا، کے پاس ہونا، ـ: کسی متمدن علاقہ میں رہنا۔ أُحْتُضِرَ: مرجانا۔ إِسْتَحْضَرَ ہ: کو منگوانا۔ ـــ ہ/ہ: کو بلوانا، منگوانا، طلب کرنا۔ ـــ ہ: کو لانا، حاصل کرنا، فراہم کرنا، جادو کے زور سے روح یا روحوں کو بلانا، کو یاد رکھنا، یاد کرنا، کو ساتھ لانا، دوا وغیرہ تیار کرنا۔ حَضَر: شہروں، دیہاتوں اور آباد لوگوں پر مشتمل متحدہ علاقہ، آباد لوگ، شہری لوگ۔ حَضَرِي: مقیم، مہذب، متمدن، شہری، شہر میں رہنے والا۔ حَضْرَة: موجودگی، حاضری۔ في حَضْرَةِ: کی موجودگی میں۔ الحضرة العُلْيَة: جناب عالی، حضور والا، حضور پرنور، اعلی حضرت، مہاراج۔ حضرتكم: خطوط میں بالخصوص احترام کا خطاب، جناب۔ حضرة الدكتور: جناب فاضل، ڈاکٹر۔ حُضُور: موجودگی، حاضری، تشریف آوری، شرکت، موجود لوگ۔ بِحُضُورِہ: اس کی موجودگی میں۔ حُضُورُ الحَفْلَةِ: تقریب میں حاضری۔ حُضُورُ الذِهن: حاضر دماغی۔ وَرَقَةُ حُضُور: پروانہ طلبی، سمن (summons)، حُضُورِيّ: احکام حضورية: فریقین مقدمہ کی موجودگی میں زبانی کارروائی کے بعد صادر کئے جانے والے فیصلے۔ حَضَارَة: تہذیب، تمدن، ثقافت، آرام سے رہنا۔ حَضِيرَہ جمع حَضَائِر: لوگوں کا ایک چھوٹا گروہ (۶ سے ۱۲ تک لوگوں کا) خصوصاً ہوائے سکاؤٹوں کا سواروں کا دستہ، چھاپہ مار جماعت، فوجی دستہ، پرا، گشتی دستہ۔ مَحْضَر: موجودگی، حاضری، آنا، آمد، ظہور (کسی کا)، اجتماع، جلسہ، مجلس، مجمع جمع مَحَاضِر: روداد، خلاصہ کارروائی، سرکاری رپورٹ، واقعاتی معلومات کی دستاویز۔ محضر الجَرْد: سامان کی فرد یا فہرست۔ بِمَحْضَرٍ منه: کی موجودگی میں۔ تَحْضِير: تیار کرنا جمع تَحْضِيرات ل: کے لئے تیاری (جیسے امتحان کے لئے تیاری): (خوراک وغیرہ) تیار کرنا، پکانا، کھانا بنانا، صنعت، (چیزیں) بنانا۔ تَحْضِيرِيّ: تیاری ...... تیاری کا۔ المدارس التحضيرية للمعلمين: استاذہ کو تیار کرنے والے ادارے، اساتذہ کے کالج۔ مُحَاضَرة جمع مُحَاضَرات: لیکچر۔ إِحضار: فراہمی، لانا، بہم رسانی۔ تَحَضُّر: زندگی کا متمدن اسلوب۔ احتضار: موت، وفات۔ إِسْتِحضَار: بنانا، تیار کرنا، تیاری، بلانا، طلب کرنا۔ استحضار الارواح: روحوں کو بلانا۔ أرواحِيّت (spiritism)۔ حَاضِر جمع حُضَّر و حُضُور: حاضر، موجود۔ الحاضر: زمانہ حاضر۔ ـــ ل: کے لئے تیار جمع حُضَّار و حَضَرَة: آباد، مقیم، گاؤں یا شہر میں رہنے والا۔ في الوقتِ الحاضر: اب، اس وقت۔ حاضِرُ الفكر: تیز فہم، برجستہ جواب دینے والا۔ نَقْدٌ حاضِرٌ: زرنقد، نقد۔ حَاضِرَة جمع حَوَاضِر: بڑا شہر، دارالحکومت، شہر (بطور مرکز تمدن و تہذیب)۔ مَحْضُور: جس پر کسی کا سایہ ہو، جس پر جن مسلط ہوں، آسیب زدہ۔ مُحَضِّر: بنانے والا، چیر پھاڑ کرنے والا۔ مُحَاضِر: لیکچرار، مقرر، خطیب۔ مُحْضِر: عدالت کا حاجب، دربان۔ مُتَحَضِّر: متمدن، مہذب۔ مُحْتَضَر: جو مر رہا ہو، قریب المرگ، مرنے والا، جس پر جن مسلط ہوں، آسیب زدہ۔ مُسْتَحْضَر جمع مستحضرات: تیار کی ہوئی دوا، مستحضر دوائی: تیار کردہ دوا۔

○ حَضْرَمَوْت: حضرموت (ایک شہر کا نام)۔ حَضْرَمِيّ جمع حَضَارِم: حضرموت کا رہنے والا حضرموتی۔

حضن: ۱۔ حَضَنَ ـُ حَضْنًا و حِضَانَةً و إِحْتَضَنَ الصبيَّ: بچہ کو گود میں لینا، سینے سے لگانا، بچہ کی پرورش کرنا۔ الحِضْن جمع أَحْضَان و حُضُون: گود۔ اس قدر مقدار جو گود میں آسکے۔ کہا جاتا ہے: اعطاه حِضْنًا من التمر: اس نے اس کو گود بھر کھجوریں دیں۔ الحاضِنَة جمع حَوَاضِن: بچہ کو پالنے والی دایہ۔ الحَضَانَة: کنڈرگارٹن، بچوں کی پرورش گاہ۔ دار الحَضَانة: بچوں کا گھر، ننھوں کا دن کا سکول، الحِضَانة: دایہ گری، پرورش۔ المُحْتَضَن: گود۔

۲۔ حَضَنَ ـُ حَضْنًا و حَضَانَةً و حِضَانًا و حُضُونًا و إِحْتَضَنَ الطيرُ بيضَهُ و على بيْضِهِ: پرندہ کا انڈے سینا۔ الحُضْنَة: انڈے سینا۔ الحَاضِنَة جمع حَوَاضِن: انڈے سینے والا پرندہ۔ حمامة حَاضِن و حَمَامٌ حَوَاضِن: انڈے سینے والی کبوتری یا کبوتر۔

۳۔ حَضَنَ ۔ حَضْنًا و حَضَانَةً ہُ عن کذا: کو سے الگ کرنا، دور کرنا۔ أَحْضَنَ بحَقِّهِ: کا حق مارنا، کو حق سے محروم کرنا۔ ـ الرجلَ و بالرجل: کو حقیر کرنا۔ الحِضْن جمع أَحْضَان و حُضُون: کنارہ، پہلو۔

۴۔ حَضُنَ ۔ حِضَانَاتِ المرأةُ او الشاةُ او الناقةُ: عورت، بکری یا اونٹنی کے چھوٹے بڑے پستان یا تھن والی ہونا صفت حَضُون۔

۵۔ الحِضْن جمع أَحْضَان و حُضُون: پہاڑ کی جڑ۔ کہا جاتا ہے: عَشَّشَ الطائرُ فی حِضْنِ الجبل: پرندہ نے پہاڑ کی جڑ میں گھونسلا بنایا۔ المِحْضَنَة: پیالہ کی طرح کا ایک مٹی کا برتن۔

○ حَضَنَ ۔ حَضْنًا و حِضَانَةً ہ: کو بازوؤں میں بھینچنا، گلے لگانا، آغوش لینا، گود میں لینا، کو پیار سے گلے لگانا۔ ــــ ہ: بچہ کی پرورش کرنا، پالنا، بچہ کی تربیت کرنا۔ ـ حَضْنًا و حِضانًا و حِضَانَةً و حُضُونًا ہ: پرندہ کا انڈے سینا، انڈوں پر بیٹھنا، بچے نکالنا۔ تَحَاضَن: ایک دوسرے سے گلے ملنا، ایک دوسرے کو گلے لگانا، آغوش لینا، ہم آغوش ہونا، ایک دوسرے سے لپٹنا، چمٹنا۔ اِحْتَضَن ہ/ ہ: کو اپنے بازوؤں میں دبانا، بھینچنا، گلے لگانا، آغوش لینا، سے ہم آغوش ہونا، کو پیار سے گلے لگانا۔ ـ ہ: سینے میں جذبہ رکھنا، (کی) تدبیر نکالنا، (منصوبہ وغیرہ) پکانا، (قصہ) گھڑنا، (بہانہ) تراشنا۔ ــــ ہ: بچہ کی پرورش کرنا، تربیت کرنا، بچہ کو پالنا۔ حِضْن جمع أَحْضَان: گود، اتنی چیز جو ہاتھ میں لے سکیں۔ قَبِلَهُ بالحضن: اس نے اس کا بازو کھول کر استقبال کیا۔ بین احضان اور فی أحضان: کے بیچ میں، کے درمیان میں، کے ساتھ، کی موجودگی میں۔ فی احضان الصحراء: بیابان کے قلب میں، کی تہوں میں، گوشوں میں۔ أَخَذَتْنِی بین أَحْضَانِها: اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ حِضَانَة: بچہ کی پرورش، تربیت، انڈے سینا۔ دار الحضانة: بچوں کا گھر، بچہ خانہ، بچوں کی پرورش گاہ یا تربیت گاہ۔ حَضِین: ہم آغوش، گلے ملا ہوا، گلے لگا ہوا، گلے لگایا ہوا، کسی کے بازوؤں میں۔ مَحْضَن جمع مَحَاضِن: بچوں کا گھر، بچوں کی پرورش گاہ یا تربیت گاہ۔ إحتضان: ہم آغوشی، گلے ملنا، گلے لگانا، تعریف، منظوری، یا احترام کا انعام۔ حَاضِنَة جمع حَوَاضِن: بچوں کی دایہ۔ مُحْتَضِن: گلے لگانے والا، آغوش

دلدادہ، شیدائی، شفقت آمیز، محبت آمیز۔

حضا: حَضَا ۔ حَضْوًا النارَ: آگ کو کریلنی سے ہلانا۔ المِحْضَا و المِحْضَاء: آگ کو ہلانے کی لکڑی، کریلنی۔ المِحْضَی: مٹی کی انگیٹھی۔

حطّ: ۱۔ حَطَّ ۔ حَطًّا: اترنا، نیچے آنا، گرنا۔ ـ حَطًّا و حُطُوطًا السعرُ: بھاؤ کا کم ہونا، گرنا، سستا ہونا۔ ـ حَطًّا و اِحْتَطَّ اِحْتِطَاطًا الحِملَ: جانور کی پیٹھ سے بوجھ اتارنا۔ کہا جاتا ہے: حَطَّ رحلَه: اس نے اقامت کی۔ اِنْحَطَّ: اترنا۔ کہا جاتا ہے: حَطَّهُ وانْحَطَّ: اس نے اسے ذلیل کیا تو وہ ذلیل ہوگیا۔ ـ السعرُ: بھاؤ سستا ہونا، ارزاں ہونا۔ کہا جاتا ہے: الأَسعارُ حَاطَّةٌ و منحطة: قیمتیں سستی ہیں۔ اِسْتَحَطَّ: نیچے اترنے کی درخواست کرنا۔ کہا جاتا ہے: اِسْتَحَطَّ فلانًا وِزْرَهُ: اس نے فلاں شخص سے اپنا بوجھ اتارنے کے لئے کہا۔ ـ الثمن شیئًا: کچھ قیمت کم کرنے کی درخواست کرنا۔ المَحَطّ و المَحَطَّة جمع مَحَاطّ و مَحَطَّات: اترنے کی جگہ، ٹھہرنے یا رکنے کی جگہ۔ محطة قِطار السِکّة الحدیدیة و محطة القطار الکهربائی: ریلوے سٹیشن، بجلی کی ٹرین کا سٹیشن۔ الحِطَّة و الحِطِّیطَی: بوجھ اتارنے کی درخواست۔ الحَطِیط: تھوڑا، چھوٹا۔ الحَطِیطَة: قیمت کی کمی۔ الإنحطاطُ النفسی: نفسیاتی گراوٹ۔

۲۔ حَطَّ ۔ حَطًّا و اِحْتَطَّ اِحتطاطًا الشیءَ: چیز کو رکھنا، ترک کرنا۔

۳۔ حَطَّ ۔ حَطَاطًا و اَحَطَّ الوجهُ: چہرے پر مہاسے نکلنا۔ الحَطَاط واحد حَطَاطَة (طب): مہاسے۔

۴۔ حَطَّ ۔ حَطَاطًا البعیرُ: اونٹ کا نکیل کو ایک جانب دبانا۔

۵۔ حَطَّ ۔ حَطًّا الجلدَ: چمڑے پر پالش کرنا، لوہے سے چمڑے پر نقش کرنا۔ المِحَطّ و المِحَطَّة: چمڑے پر پالش یا نقش کرنے کے لئے لوہے یا لکڑی کا تیار کردہ آلہ۔ الحُطُط: نرم و نازک ابدان (جمع بدن)۔ الأحَطّ: نرم و چکنی پیٹھ والا۔ مَحْطُوط (مفع): پالش کیا ہوا۔ اَدِیمٌ مَحْطُوط: پالش شدہ ادھوڑی۔ سیفٌ محطوط: تیز کی ہوئی تلوار۔

۶۔ اِنْحَطَّتِ الناقةُ فی سیرها: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔ الحَطُوط: تیز رفتار اصیل اونٹنی۔

الحُطَاط: بدبو۔ الحِطّان: بکرا۔

۸۔ حَطْحَطَ الشیءَ: چیز کا اترنا۔ ـــ الرجلُ: جلدی کرنا۔

○ حَطَّ ۔ حَطًّا ہ: کو رکھنا، (بوجھ) اتارنا۔ ـــ ہ/من: کو کم کرنا۔ ـ من قَدْرِهِ یا من قیمتِهِ: کی قدر و قیمت گھٹانا۔ حَطَّ الرِحَالَ: رکنا، ٹھہرنا، اترنا، کوچ میں پڑاؤ ڈالنا۔ ـ ۔ حَطًّا و حُطُوطًا: ڈوبنا، اترنا، پرندہ کا زمین پر اترنا، آرہنا، ہوائی جہاز کا زمین پر اترنا، قیمت کا گرنا۔ حَطَّطَ ہ: بوجھ اتارنا۔ اِنْحَطَّ: ڈوبنا، اترنا، کم ہونا، گھٹنا، گرنے لگنا، بگڑنا، رو بہ تنزل ہونا، زوال میں آنا، گرنا، برباد ہونا، گھٹ جانا، کم ہوجانا۔ اِحْتَطَّ ہ: کو اتارنا۔ حَطّ: اتارنا، کم قدری، کمیء قیمت، گھٹا کر بتانا، برے لفظوں میں بیان کرنا۔ ـ من: بے قدری، تحقیر، ہتک، توہین، استخفاف، کی کمی۔ حِطَّة: تخفیف، تسکین، چارہ سازی، دستگیری، نجات، نرمی، ذلت، خواری، بے قدری، خفت، تحقیر، ہتک، رسوائی، ذلت، پستی، گراوٹ (درجہ، مرتبہ، عظمت، ساکھ میں) توہین، تذلیل، شرمساری، بے عزتی، بدسلوکی۔ احَطّ: زیادہ نیچا۔ حَطِیطَة: قیمت میں کمی۔ مَحَطّ: رکنے کی جگہ، رکھنے کی جگہ، مختصر وقفہ، سر، آواز کا اتار چڑھاؤ، آواز کا زیر و بم۔ مَحَطُّ الآمال: جس سے امیدیں وابستہ کی گئی ہوں، امیدوں کا مرکز۔ کان محط الأنظار: کی طرف توجہ مبذول کرنا۔ محط الکلام: الفاظ کا معنی یا مفہوم۔ مَحَطَّة جمع مَحَطَّات: رکھنے کی جگہ، سٹاپ، سٹیشن، پوسٹ، ریلوے سٹیشن، براڈ کاسٹنگ سٹیشن، ریڈیو سٹیشن۔ محطة تحویل التیّار: ٹرانسفارمر سٹیشن۔ محطة الإذاعة (اللاسلکیة): براڈ کاسٹنگ سٹیشن، ریڈیو سٹیشن، ٹرانسمیٹر (اسٹیشن)۔ محطة رئیسیة: بڑا ریلوے سٹیشن۔ محطة الإشارات: سگنل پوسٹ۔ محطة الإرسال: ٹرانسمیٹر (اسٹیشن)۔ محطة للأرصاد الجویة: موسمیاتی سٹیشن۔ محطة الصَّرف: پمپ سٹیشن (پانی نکالنے کے لئے) پاور پلانٹ۔ محطة الاستقبال: ریسیونگ سٹیشن (receiving station)۔ محطة لاسلکیة قصیرةُ الأمواج: شارٹ ویو ٹرانسمیٹر اسٹیشن۔ محطة تولید الکهرباء و محطة کهربائیة: پاور پلانٹ۔ إنحطاط: زوال، انحطاط، تنزل، گراوٹ، کمتری، کہتری۔ احساس الانحطاط: کمتری کا شعور۔ إنحطاطی: مابعد

معیاری قلمکار۔ مُنْحَطّ: نیچا، کمینہ، نچلی سطح کا، نچلے درجے کا، گری ہوئی، اخلاق باختہ (عورت)؛ شرمناک، گندا، بازاری، سوقیانہ، کم رتبہ۔

حَطَأَ ۔ حَطْأً الارضَ بہ: کو زمین پر پچھاڑ دینا، گرا دینا۔ ۔ بالشیءِ: چیز کو پھینکنا۔ ۔ بہ عن کذا: کو سے ہٹانا، جھکانا۔ ۔ الحِطْءُ: برتن میں بچا ہوا پانی۔ کہا جاتا ہے: حِطْءٌ من التمر: کھجور کی اتنی مقدار جو پیٹھ پر اٹھائی جا سکے۔ الحَطْیُ من الناس: ذلیل لوگ۔ کہا جاتا ہے: ھو حَطْیٌ بطیٌ: وہ ذلیل ہے تابع بن کر آیا ہے۔ الحُطَیْئَة: بدشکل پست قد آدمی۔ شاعر جَرْوَل کا لقب۔ بعض کے نزدیک بدصورتی کی وجہ سے یہ لقب دیا گیا تھا۔

حطب: ۱۔ حَطَبَ ۔ حَطْبًا: لکڑیاں جمع کرنا صفت: حاطِب۔ ۔ ہُ: کے پاس لکڑیاں لانا۔ کہا جاتا ہے: حَطَبَ فی حبلہ: اس نے اس کی مدد واعانت کی۔ حطب علیہ بخیر: وہ اس کے پاس بھلائی لایا۔ ۔ المکانُ: بہت لکڑیوں والی جگہ ہونا۔ مکانٌ حطیب: بہت لکڑیوں والی جگہ۔ ارضٌ حطیبة: بہت لکڑیوں والی زمین۔ اَحْطَبَ: لکڑیاں جمع کرنا۔ ۔ المکانُ: بہت لکڑی والی جگہ ہونا۔ ۔ و اِسْتَحْطَبَ الکرمُ: انگور کی بیل سے شاخیں کاٹنے کا وقت آنا۔ اِحْتَطَبَ: لکڑیاں جمع کرنا۔ الحَطَب جمع اَحْطاب: جلانے کی لکڑی۔ حَطَبَة: اس کا ایک ٹکڑہ، ایندھن (لکڑیوں پر مشتمل)۔ الحَاطِب: لکڑیاں جمع کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: ھو حاطبُ لیلٍ: وہ کلام میں رطب و یابس ملانے والا ہے۔ الحَطّاب: لکڑیاں جمع کرنے والا، لکڑیاں بیچنے والا۔ الحَطُوبہ: لکڑیوں کا گٹھا۔ الحَطّابة: لکڑیاں جمع کرنے یا بیچنے والی، لکڑیاں جمع کرنے والے۔ الحَطُوبة: لکڑیوں کا گٹھا۔ الحَطّابة: لکڑیاں جمع کرنے یا بیچنے والی، لکڑیاں جمع کرنے والے۔ المِحْطَب: لکڑیاں کاٹنے کا آلہ۔

۲۔ حَطَبَ ۔ حَطْبًا بہ و علیہ: کسی کی چغلی کھانا، پر افترا باندھنا۔

۳۔ الحَطِب مؤنث حَطِبَة و الأَحْطَب مؤنث حَطْبَاء جمع حُطْب: بہت دُبلا۔

○ حَطَبَ ۔ حَطْبًا: جلانے کی لکڑیاں جمع کرنا۔ حطب فی حبلہ: کی مدد کرنا، پشت پناہی کرنا، کا سہارا ہونا، کی حمایت کرنا۔ اِحْتَطَبَ: جلانے کی لکڑیاں جمع کرنا۔ حَطَب جمع أَحْطاب: جلانے کی لکڑیاں۔ حَطّاب: لکڑیاں جمع کرنے والا، لکڑیاں کاٹنے والا، چوب تراش، جنگل میں عمارتی لکڑی کاٹنے والا، جلانے کی لکڑیاں بیچنے والا۔ تحطیب: بے بازی، تباہ کرنا۔ حاطِب: لکڑیاں جمع کرنے والا، لکڑیاں کاٹنے والا، جلانے کی لکڑیاں بیچنے والا، جنگل میں عمارتی لکڑی کاٹنے والا۔ کَحَاطِبِ لیل: رات کو لکڑیاں کاٹنے والے کی طرح، اندھا دھند، بے سوچے سمجھے (اس شخص کے متعلق کہا جاتا ہے جو یہ پوری طرح نہیں سمجھتا یا سوچتا کہ وہ کیا کر رہا ہے)۔

حطم: ۱۔ حَطَمَ ۔ حَطْمًا ہُ و حَطَّمَ ہُ: کو توڑنا۔ تَحَطَّمَ و اِنْحَطَمَ: ٹوٹنا۔ کہا جاتا ہے: تَحَطَّمَ الرجلُ غیظًا: وہ غصہ سے بھڑک اٹھا۔ اِنْحَطَمَ الناسُ علیہ: لوگوں نے اس پر بھیڑ کی اور ایک دوسرے کو توڑا پھوڑا۔ الحُطَم: ظالم و بے درد چرواہا۔ ۔ والحُطَم: بسیار خور، سب کچھ چٹ کر جانے والا۔ الحَطُوم: سخت تند ہوا۔ کہا جاتا ہے: رِیْحٌ حَطُوم: تند ہوا جو ہر چیز کو توڑ ڈالے۔ ۔ والحَطّام و المِحْطَم: شیر۔ الحُطَمَة: تیز آگ۔ بہت سے اونٹ اور بہت سی بکریاں، جہنم، دوزخ۔ الحِطْمَة و الحُطَامَة والحُطام: ٹوٹی ہوئی سوکھی چیز۔ حُطامُ البیض: انڈے کا چھلکا۔ حطام الدنیا: دنیا کا سامان تھوڑا ہو یا بہت جو فنا ہو جاتا ہے اور باقی نہیں رہتا۔ الحَطِیم: کعبہ شریف کے کنارے کی دیوار رکن زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان کی جگہ۔ الحَاطُوم (طب): ہاضم دواء یا غذا۔ ۔ و الحَطْمَة و الحُطْمَة: سخت سال۔ الحُطَمِیّات: حُطمہ نامی شخص کی طرف منسوب زرہیں۔ بعض کے نزدیک تلواروں کو توڑ دینے والی زرہیں۔ اور بعض کے نزدیک بھاری اور چوڑی زرہیں۔

۲۔ حَطِمَ ۔ حَطَمًا: بڑی عمر والا ہونا۔

○ حَطَمَ ۔ حَطْمًا ہ: کو توڑنا، پاش پاش کر دینا، توڑ پھوڑ ڈالنا، ڈھانا، کی دھجیاں اڑانا۔ حَطَّمَ ہ: بمعنی حَطَمَ ہ۔ تحَطَّم: ٹوٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پاش پاش ہونا، ٹوٹ پھوٹ جانا، عمارت یا ہوائی جہاز کا گر پڑنا۔ بحری جہاز کا تباہ ہو جانا۔ اِنْحَطَم بمعنی تحَطَّم۔ حِطْمَة جمع حِطَم: ذرہ، چھوٹا ٹکڑا، ٹکڑا، لقمہ، نوالہ، ٹوٹی ہوئی چیز۔ حُطَام: ملبہ، روڑے، ٹکڑے، ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، شکستہ بحری جہاز، ڈوبا ہوا بحری جہاز، ٹوٹی پھوٹی چیز، کھنڈر، تباہ شدہ، ڈوبا ہوا (بحری جہاز)۔ حُطام الدنیا: اس دنیا کی عارضی (چند روزہ) چیزیں، سامان، مال و اسباب۔ حَطِم: تباہ شدہ، پاش پاش، تہس نہس۔ تحْطِیم: ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پاش پاش کرنا، تباہ کرنا، توڑنا پھوڑنا، ڈھانا، مسماری، تباہی، انتشار۔ سفینة تحْطِیمِ الجَلِید: برف توڑ کر سمندر میں راستہ بنانے والا جہاز (icebreaker)۔ تحطم: ریزہ ریزہ ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، انتشار، ہوائی جہاز کا گرنا، گر جانا، دھڑام سے گرنا، وقعۃً گرنا، ٹوٹ جانا (مشین وغیرہ کا)۔ حَاطِمَة الجلید: بمعنی سفینة تحطیم الجلید۔ مُحَطِّم: ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، پاش پاش کرنے والا، گرجنے والا، کڑکنے والا، گرج دار (دھماکہ وغیرہ)۔ مُحَطَّم: ٹوٹی پھوٹی، ویران۔ مُحَطِّمَة ثلجیة: بمعنی سفینة تحطیم الجلید۔

حظّ: حَظَّ ۔ حَظًّا وحُظًّ و اَحَظَّ: نصیب والا ہونا، صفت: حَظِّیّ و حَظِیظ و مَحْظُوظ۔ الحَظّ جمع حُظُوظ و حِظَاظ و اَحُظّ: نصیب، حصہ، بہرہ، خیر و فضل، کبھی شر کے لئے بھی بولا جاتا ہے، مالداری، خوش قسمتی، سعادت۔

○ حَظَّ ۔ حَظًّا: خوش قسمت ہونا، خوش نصیب ہونا۔ اَحَظّ: بمعنی حَظّ۔ حَظّ و حُظُوظ: حصہ، قسمت، تقدیر، نصیبہ، مقدر، نصیب، خوش قسمتی، خوش نصیبی، دولت مندی، امارت، تمول، فروغ، خوشی، مسرت، سعادت۔ ذوحظٍ من: سے مزین، ودیعت شدہ۔ لِحُسْنِ الحظّ اور من حُسْنِ الحظّ: خوش قسمتی سے۔ سُوْءُ الحظ: بدقسمت، بدنصیب۔ سَیِّءُ الحظ: بدقسمت، بدنصیب۔ لِسُوْءِ الحظّ: بدقسمتی سے، بدنصیبی سے۔ مِن حُسْنِ حَظِّی: میری خوش قسمتی سے۔ کان من حُسْنِ حَظِّہِ ان: وہ اس میں خوش قسمت تھا کہ اس نے۔ لیسَ احسن منھا حَظًّا: وہ اس عورت سے زیادہ اچھی حالت میں نہیں۔ حَظِیظ: خوش قسمت، خوش نصیب۔ مَحْظُوظ: خوش قسمت، خوش نصیب، خوش، مسرور، مطمئن، قانع، راضی۔

حظب: حَظَبَ ۔ حُظُوبًا و حَظِبَ ۔ حَظَبًا الرجلُ: موٹا ہونا، پست قد موٹے پیٹ والا ہونا، صفت: حَظِب مونث حَظِبَة۔ الحُظُبّ: پست قد موٹے پیٹ والا، اجڈ، اکھڑ، تنگ خلق، بخیل۔

حظر: ۱۔ حَظَرَ ۔ حَظْرًا: اپنے لئے باڑہ یا احاطہ تیار کرنا۔ ۔ ہُ الشیءَ و ۔ علیہ الشیءَ: کو سے منع کرنا، روکنا۔ ۔ الشیءَ: کو محفوظ کرنا یعنی غیر کے تصرف سے رکنا۔ ۔ المواشی: مویشیوں کو باڑہ میں بند کرنا۔ حَظَّرَ بمعنی حَظَرَ (تشدید

مبالغہ کے لئے)۔ أَحْظَرَ: دوسرے کے لئے باڑہ یا احاطہ بنانا۔ اِحْتَظَرَ: بمعنی حَظَرَ۔ ـ بہٖ: سے خود کو محفوظ کرنا، بچانا۔ الحَظَر: درخت کی شاخ جس سے باڑہ بنایا جائے، تر کانٹا۔ کہا جاتا ہے: وقع فی الحظر الرَّطْب: وہ ایسے معاملہ میں پھنس گیا جس کی اسے طاقت نہیں۔ مجازاً: اوقد فی الحظر الرطب: اس نے چغلخوری کی۔ کہا جاتا ہے: جاءَ بالحَظِر الرطب: وہ مال کثیر لایا یا اس نے بہت جھوٹ بولا۔ المَحْظُور: ممنوع، ناجائز۔ کہا جاتا ہے۔ الضَّرُوراتُ تُبِیحُ المَحْظُورات: ضرورتیں، ممنوع یا حرام چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں۔ الحَظِیرَۃ جمع حَظَائر و الحَظَار و الحِظار: ہر وہ شیئ جو تمہارے اور کسی چیز کے درمیان حائل ہو۔ باڑہ کہا جاتا ہے: انہ لنکد الحظیرۃ: وہ کنجوس اور بے خیر ہے، کبھی بخیل کے مال کو بھی حظیرہ کہتے ہیں۔ حظیرۃُ القُدُس: جنت۔

۴۔ حَظْرَبَ القوسَ: تانت کمان پر مضبوطی سے چڑھانا۔ ـــ الحبلَ: رسّی کو اچھی طرح بٹنا۔ ـــ السقاءَ فتحظرب: مشک کو بھرنا اور نتیجے مشک کا بھر جانا۔

○ حَظَرَ ـ حَظْراً ہ: میں باڑ لگانا، کانٹے لگانا۔ ـــ علی ہ: سے کوئی چیز روکنا، کو کچھ کرنے سے منع کرنا۔ حظر: ممانعت، قدغن، روک دینا، پابندی۔ حِظار و حَظَار: دیوار، پردہ، پارٹیشن، آڑ، اوٹ، پردہ، جنگلا، باڑ، باڑا، کٹہرا۔ حَظِیرَۃ جمع حَظَائِر: احاطہ، باڑ، جنگلا، باڑہ، جھاڑی کی باڑ، آنگن، صحن، مکان، کانجی گھر، مویشیوں کا باڑا، مکان یا اصطبل کے پاس گھاس کا مختصر میدان، پنجرا، مرغیوں کا ٹاپا یا کھڑا۔ ہوائی جہازوں کے لئے چھپر (ہینگر)، چھپر، شیڈ (shed)، میدان، خیال وعمل کا میدان (مجازا)۔ فی حظیرۃ: کے اندر۔ جَذَبَہُ الی خطیرتہ: کو اپنے زیر اثر لانا۔ حظائر الطائرات: ہوائی جہازوں کے چھپر، ہینگر۔ حظیرۃُ القُدس: جنت۔ مَحْظُورٌ علی: پر ممنوع۔ مَحْظُورٌ: پابندی لگا ہوا، بندش لگا ہوا جمع مَحْظُورات: ممنوعہ اشیاء، پابندیاں۔

حظل: ۱۔ حَظَلَ ـ حَظْلاً و حِظْلاناً و حَظَلاناً علیہ: کو حرکت اور تصرف سے روک دینا۔ ـــ المشیَ: چلنے میں ٹھہرنا اور وقفہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: ھو یحظل حَظَلاناً: وہ غصہ والی چال چلتا ہے۔ الحَظِل و الحَظَّال و الحَظُو: اپنے اہل و عیال پر بہت کنجوسی سے خرچ کرنے والا۔

۲۔ حَظِلَ ـ حَظَلاً البعیرُ: اونٹ کا بہت اندرائن کھانا، صفت: حَظِل۔ ایسے اونٹوں کو حَظَالی کہا جاتا ہے۔ اَحْظَلَ المکانُ: جگہ کا بہت اندرائن والی ہونا۔

حظا: ۱۔ حَظَا ـ حَظْواً: آہستہ چلنا۔ الحُظَیّا: آہستہ چال۔ کہا جاتا ہے: مَشَی الحظیا: وہ آہستہ چال چلا۔

۲۔ حَظِیَ ـ حُظْوَۃً و حِظْوَۃً و حِظَۃً: صاحب مرتبہ ہونا، صاحب نصیب ہونا۔ ـــ و بالرزق: رزق کا حصہ حاصل کرنا۔ أَحْظَی ہُ: کو نصیب والا بنانا۔ ـــ ہُ بالمال: کو مال کا حصہ دینا۔ ـــ ہُ علی فلان: کو فلاں شخص پر ترجیح دینا، فوقیت دینا۔ اِحْتَظَی: صاحب مرتبہ ہونا، صاحب نصیب ہونا۔ الحَظْو (مص): حصہ۔ الحِظَۃ جمع حِظًا و حِظَاء: حصہ، مرتبہ۔ الحُظْوَۃ و الحِظْوَۃ: مرتبہ۔ الحَظِی: رتبہ والا۔ الحَظِیّ: لوگوں کا پیارا، محبوب و اونچے مرتبے والا۔ الحَظِیَّۃ جمع حَظَایا: الحَظِیّ کا مونث: حاکم یا بادشاہ کی پیاری یا محبوبہ لونڈی۔

۳۔ الحَظْوَۃ جمع حِظَاء و حَظَوَات: درخت کی جڑ کی نرم شاخ، چھوٹا تیر۔ الحُظَیَّۃ جمع حُظَیَّات: بغیر پھل کے چھوٹا تیر، ضرب المثل: احدی حُظَیّاتِ لقمان: لقمان کا ایک تیر تیر پھینکنے کی جگہ۔ لقمان سے یہاں مراد لقمان بن عاد ہے جو گزرے ہوئے عربوں سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ضرب المثل بڑی برائیوں کے عادی کی طرف سے ایک چھوٹی برائی کے بارے میں بولی جاتی ہے۔

حظی: الحَظَی واحد حَظَاۃ (ح): جوں۔ الحظی جمع أَحْظٍ وجمع الجمع: اَحَاظٍ: حصہ، نصیب۔

○ حَظِیَ ـ حُظْوَۃً و حِظْوًا عند: کی کرم فرمائی یا نوازشوں سے لطف اندوز ہونا، کی حمایت میں ہونا۔ ـــ ب: کو حاصل کرنا۔ حُظْوَۃ و حِظْوَۃ: ناجائز مدد والی حیثیت، منظور نظر کا کردار، مہربانی، نوازش، برتری، ساکھ، فیض رسانی، وقار، وقعت، عزت، احترام، بڑی یا مسلمہ حیثیت۔ نال حظوۃَ عندَ (لدی): کا قرب حاصل کرنا۔ حَظِیَّۃ جمع حَظَایا: داشتہ، آشنا، محبوبہ، معشوقہ۔ مَحْظِیَّۃ جمع مَحْظِیات: داشتہ، آشنا، محبوبہ، معشوقہ، یار۔

حفّ: ۱۔ حَفَّ ـ حَفّاً القومُ الرجلَ و بہٖ و حولَہٗ: کو گھیرنا۔ ـــ ہُ بکذا: کا سے احاطہ کرنا۔ ضرب المثل: مَنْ حَفَّنا او رَفَّنا فلیقتصد: جو ہماری حمایت کرے ہمارا بہت خیال کرے یا ہماری خدمت اور تعریف کرے تو اُسے چاہئے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ حَفَّفَ القومُ حولَہٗ و حفّوہٗ: کو گھیرنا، کا احاطہ کرنا۔ ـــ ہ بکذا: کا سے احاطہ کرنا۔ اِحْتَفَّ القومُ بہ: کا احاطہ کرنا۔ الحَفّ: خیال رکھنے والا، دلچسپی لینے والا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ حفّ علی نفسہ: فلاں شخص اپنی ذات میں دلچسپی لیتا ہے، یا اپنا بہت خیال رکھتا ہے۔ ـــ والحَفَف: کنارا۔ الحَافّ (فا): کہا جاتا ہے: مالہ حافّ ولا راقّ: اس کے کاموں کی دیکھ بھال کرنے والا یا اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ الحِفَاف جمع أَحِفَّۃ: جانب۔ الحَفَّان: نوکر چاکر، بھرا ہوا برتن۔ کہا جاتا ہے: اِناءٌ حَفَّان: بھرا ہوا برتن۔ الحَفَّۃ: کپڑا لپیٹنے کی جولاہے کی لکڑی، گڑھے کے کنارے کی زمین۔ المِحَفَّۃ: مسافر کو لیجانے کی پالکی، اسٹریچر، تخت رواں، ہودج کی طرح کی عورتوں کی پالکی۔

۲۔ حَفَّ ـ حَفّاً و حِفَافاً الشیءَ: کا چھلکا اتارنا۔ ـــ اللحیۃَ: داڑھی مونڈنا یا کترنا۔ ـــ الوجہَ: چہرے کے بال دور کرنا۔ اِحْتَفَّ الشیءَ: کا چھلکا اتارنا۔ ـــ النبتَ: سبزہ کاٹنا۔ الحِفَاف جمع أَحِفَّۃ: گنجے کے سر کے گردا گرد کے بال۔ الحُفَافَۃ: گرے ہوئے بال وغیرہ۔

۳۔ حَفَّ ـ حُفُوفاً سمعُہٗ: بہرہ ہونا۔ اِحْتَفَّ جمیع ما فی القِدر: ہانڈی میں جو کچھ ہو اسے چٹ کر جانا۔ اِسْتَحَفَّ المالَ: سب مال لے لینا۔ الحَفَفۃ: اونٹوں کی خوراک کی مقدار۔ الحِفَاف جمع أَحِفَّۃ: کھائے جانے کی مقدار۔ کہا جاتا ہے: کان الطعامُ حِفَافَ ما أَکَلُوا: کھانا اسی قدر تھا جس قدر انہوں نے کھایا۔

۴۔ حَفَّ ـ حُفُوفاً الأرضُ حفوفاً: زمین کی سبزی کا خشک ہونا۔ ـــ بطنُ الرجلِ: گوشت اور چربی نہ کھانے پر سوکھ جانا۔ خبزٌ حافٌّ: بغیر سالن کے روٹی۔

۵۔ حَفَّ ـ حَفَافَۃُ الحاجۃ: کو حاجت لاحق ہونا۔ حَفَفَ الرجلُ: مصیبت زدہ اور کم مال والا ہونا۔ الحَفَف: مال کی کمی، تنگ زندگی، معاشی تنگی۔ کہا جاتا ہے: معیشۃٌ حَفَفٌ: تنگ زندگی۔ طعام حَفَفٌ: تھوڑا کھانا۔ المَحْفُوف (مفع): محتاج۔

۶۔ حَفَّ ـ حُفُوفاً الرجلُ: تیز نظر بد لگانے والا ہونا۔ الحافّ (فا): تیز بد نظر لگانے والا۔

۷۔ حَفَّ ـ حَفِیفاً الشجرۃُ او الحیّۃُ: درخت یا

سانپ کا سرسراہٹ پیدا کرنا۔

۸۔ حَفَّ - حُفُوفًا۔ حُفُوفَاتِ اللحیۃُ: داڑھی کا پراگندہ ہونا۔ اَحَفَّ إحْفَافًا رأسہٗ: سر میں مدت تک تیل نہ لگانا۔ بالوں کی دیکھ بھال نہ کرنا۔

۹۔ اَحَفَّ إحْفَافًا الرجلَ: کو برائی سے یاد کرنا۔

۱۰۔ الحَفّ و الحَفَف: نشان قدم۔ کہا جاتا ہے: جاءَ علی حَفِّهِ او علی حَفَفِهِ: وہ اس کے نشان قدم پر آیا۔ الحَفَّة: پوری فیاضی۔ الحِفَاف: نشان قدم۔ کہا جاتا ہے: جاءَ علی حِفَافِهِ: وہ اس کے نقش قدم پر آیا۔ الحَفَّان واحد حَفَّانَة (ح): شترمرغ کے بچے۔ حَفَّانُ النعام: شترمرغ کے پر۔ الحُفَافَة: بچا ہوا بھوسہ۔

۱۱۔ حَفْحَفَ: پرندہ کی اُڑان یا تیر پھینکنے کی سرسراہٹ یا آگ بھڑکنے کی آواز ہونا۔

○ حَفَّ - حَفًّا ہ/ ہ ب: کو سے گھیرنا۔ ـــ حولَ: کو گھیرنا۔ ـــ ہ ب: کا احاطہ کرنا، کے گرد حلقہ ڈالنا، کو محصور کرنا، کو حاشیہ لگانا۔ ـــ ہ: (جسم کے ایک حصہ کے بال) صاف کرنا، دور کرنا یا اڑانا، ـــ ہ: (جلد، کھال، چمڑا) کے بال دور کرنا، ـــ ہ: داڑھی کترنا، تراشنا، تراش کر درست کرنا۔ ـــ ہ: کو چھیلنا، دور کرنا، کھرچ دینا، رگڑ ڈالنا۔ تحف بہ العیونُ: تعریفی نظریں اس کا تعاقب کرتی ہیں، وہ مرکز توجہ ہے، سب آنکھیں اُس پر لگی ہوئی ہیں۔ ـــ حَفِيفًا: سرسر کرنا، سرسرانا۔ حَفَّفَ و إحْتَفَّ ہ/ ہ ب/ حولَ: کا محاصرہ کرنا، کے گرد گھیرا ڈال دینا، کو گھیر لینا، کو گھیرے میں لے لینا۔ ـــ ہ/ب/حول: کے گرد حلقہ ڈالنا، کو محصور کر لینا، کو حاشیہ لگانا۔ حَفَاف: پہلو، کنارا۔ حَفِيف: سرسراہٹ۔ مِحَفَّة و مَحَفَّة جمع مِحَفَّات: پالکی، ڈولی، اسٹریچر، پہیے دار سٹریچر، پینس، بندکار۔ خبز حافٌ: سالن کے بغیر روٹی۔ حَافَّة جمع حَافَات: احاطہ، کنارہ، حاشیہ، برتن کا کنارا یا لب، کنارا، جھالر، گوٹ، مغزی، سنجاف۔ علی حافَّةِ الخراب: تباہی کے کنارے پر۔

حفا: حَفَأَ - حَفْأً ہٗ: کو پچھاڑنا۔ الحَفَأ واحد حَفَأَة (ن): ایک قسم کا پودا جس کی چھال کو قدیم مصری کتابت کے کام میں لایا کرتے تھے۔

حفت: حَفَتَ - حَفْتًا ہٗ: کو ہلاک کرنا، کی گردن توڑنا۔ ـــ الشیءَ: کو کوٹنا۔

حفث: الحِفْث و الحَفِث جمع أَحْفَاث و الحُفَاث جمع حَفَافِيث (ح): ایک قسم کا بڑا سانپ جو موذی نہیں ہوتا۔

حفد: ۱۔ حَفَدَ - حَفْدًا و حُفُودًا و حَفَدَانًا و إحْتَفَدَ فی العمل: کام جلدی کرنا۔ اَحْفَدَ الظلیمُ: شترمرغ کا تیز چلنا۔ ـــ الظلیمَ: شترمرغ کو تیز چلانا۔ الحَفَد: تیز چلانا۔ المُحْتَفِد من السیوف: تیز کاٹنے والی تلوار۔

۲۔ حَفَدَ - حَفْدًا و حُفُودًا و حَفَدَانًا و إحْتَفَدَہٗ: کی خدمت کرنا۔ الحَافِد جمع حَفَد و حَفَدَة: خادم، تابع، مددگار، پوتا۔ الحَفِيد جمع حُفَداء: پوتا۔ کہا جاتا ہے: ہو حفیدی: وہ میرا پوتا ہے۔

۳۔ الحَفَدَة: نقش ونگار کرنے والے۔ المَحْفَد جمع مَحَافِد: کپڑے کی گلکاری، کوہان کی جڑ۔ والمِحْفَد: جانور کو چارہ کھلانے کا برتن۔ المَحْفِد جمع مَحَافِد: اصل۔ کپڑے کا کنارہ۔ وہ پیالہ جس سے اناج ناپ کر دیا جاتا ہے۔ پیمانہ، وزن کا پیالہ۔

○ حفید جمع أحْفَاد و حَفَدَة: پوتا، اولاد، خلف، نسل، چشم و چراغ، نونہال۔ حَفِيدَة: پوتی۔

حفر: ۱۔ حَفَرَ - حَفْرًا الارضَ: زمین میں گڑھا کھودنا۔ ـــ الطریقَ: راستہ پر چلنے سے نشان ڈالنا۔ ـــ البئرَ: کنواں کھودنا۔ حَافَرَ الیربوعُ: جنگلی چوہے کا اپنے طالب پر سوراخ کو ملتبس کر دینا۔ اسی سے یہ ضرب المثل مشہور ہے: فلانٌ اروغُ من یربوعٍ مُحافِر: فلاں شخص جنگلی چوہے سے کہیں زیادہ چالاک اور مکار ہے جو اپنے ڈھونڈنے والے کیلئے اپنے بل کو پراسرار بنا دیتا ہے۔ اَحْفَرَہُ البئرَ: کی کنواں کھودنے میں مدد کرنا۔ تَحَفَّرَ السیلُ: سیلاب کا زمین میں گڑھے ڈالنا۔ إحْتَفَرَ الارضَ: زمین میں گڑھا کھودنا۔ إسْتَحْفَرَ النهرُ: نہر کے کھودے جانے کا وقت قریب آ پہنچنا۔ الحَفَر: فراخ کنواں۔ الحَفَر جمع أحْفَار و جمع احافیر: فراخ کنواں۔ کھدی ہوئی جگہ سے نکالی ہوئی مٹی۔ الحُفْرَة جمع حُفَر و الحَفِيرَة جمع حَفَائِر و الحَفِير: گڑھا، کھدی ہوئی زمین، قبر۔ الحَافِرَة: الحَافِر کا مؤنث، کھودی ہوئی زمین، ابتدائی حالت۔ کہا جاتا ہے: الآن قد تَعَسَّفَ و قد کان نجیبًا فی الحافِرة: وہ اب راہ راست سے منحرف ہے، ابتداء میں تو وہ شریف تھا۔ الحَفَّار: کھودنے والا، گورکن (عموماً)۔ المِحْفَر و المِحْفَرَة و المِحْفَار: کھودنے کا آلہ، کدال۔

۲۔ حَفَرَ - حَفْرًا و حَفِرَ - حَفَرًا و حُفِرَ: دانتوں کی زردی کے باعث ان کی جڑوں کا خراب ہو جانا۔ ـــ الصبیُّ: بچہ کا دودھ کے دانت گرانا۔ الحَفْر و الحَفَر: دانتوں کی زردی۔ المَحْفُور: زرد دانتوں والا۔

۳۔ حَفَرَ - حَفْرًا الشیءَ: کی تہہ معلوم کرنا۔

۴۔ حَفَرَ - حَفْرًا العنزَ: بکری کو دبلی کرنا۔

۵۔ الحَافِر جمع حَوَافِر (ع ا): جانور کا کھر، پہلا کلمہ۔ کہا جاتا ہے: النقدُ عِندَ الحافِرِ: جب تم جانور خریدو تو اس کی قیمت ادا کئے بغیر جگہ سے نہ ٹلو۔ الحَافِرَة: کسی چیز کی طرف لوٹنا۔ (رجع علی او فی حافرته: وہ اس راستہ سے لوٹ گیا جس سے وہ آیا تھا۔ یا یہ کہ وہ جس کام سے نکل گیا تھا پھر اس میں لگ گیا۔ رجع فی حافرته: وہ بوڑھا ہو گیا)، پہلی ملاقات، کہتے ہیں: التقی القومُ فاقتتلوا عند الحافرة: لوگ جیسے ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، باہم جدال و قتال میں مصروف ہو گئے۔ الحَفْرِی (ن): ایک ریتلی نبات جو ہمیشہ سبز رہتی ہے۔ الحَافِرِيَّة (ن): ایک قسم کا پودا جس کے پھول بڑے اور کئی رنگوں کے ہوتے ہیں، جن میں اکثر زرد اور سرخ رنگ غالب ہوتا ہے اسکا اصل وطن جنوبی امریکہ ہے۔

○ حَفَرَ - حَفْرًا ہ: کو کھودنا۔ ـــ: تیل کی تلاش میں برمے سے سوراخ کرنا، کھدائی کرنا۔ ـــ ہ: کو کاٹ کر نقش بنانا، میں نقش ونگار کھودنا، پر نقاشی کرنا، قلم کاری کرنا، کندہ کرنا۔ حَفَرَ خنادقَ: خندقیں کھودنا۔ حَفَرَ حُفْرَةً: گڑھا تیار کرنا، کمین گاہ تیار کرنا۔ إنْحَفَرَ: کھودا جانا، کھدنا، کاٹ کر نقش بنایا جانا، نقاشی کیا جانا، قلم کاری کیا جانا۔ إحتفر: کھودنا۔ حَفْر: کھودنا، کھدائی، مٹی کا دھس کھود کر نکالنا، تیل کے لئے برمے سے سوراخ کرنا، نقش کندہ، تصویر کا نقش، نقش کندہ، کندہ کی ہوئی تصویر، کندہ کاری، نقاشی، لکڑی پر کندہ کاری، فساد خون کا ایک مرض۔ جهاز الحفر: کنواں کھودنے کے آلات، تیل کے کنوئیں پر لگایا ہوا ڈھانچہ جو برمے کو تھامتا ہے۔ حُفْرَة جمع حُفَر: گڑھا، سوراخ، کھدائی۔ حَفْرِيَة: کھودنا، کھدائی۔ حفریات: کھدایان۔ حَفَّار: کھودنے والا، نقاش، برمے سے سوراخ کرنے والا، سنگتراش۔ حَفَّارُ القبور: گورکن۔ حَفِير: کھودا ہوا، کھود کر نکالا ہوا۔ حَفِيرَة جمع حَفَائِر: کھودی ہوئی یا کھود کر نکالی کوئی چیز۔ حَفَائِر: کھدایاں۔ أُحْفُور جمع أحَافِير: کھودی ہوئی چیز، آثار متحجرۃ۔ احافیر: کھدائیاں۔ محفر جمع

مَحَافِر: بیلچہ، پھاوڑا۔ حافِر جمع حَوافِر: کھر۔
وقع الحافر علی الحافِر: منطبق ہونا، ٹھیک
بیٹھنا۔ علی الحافِر: وہیں، اسی وقت، اسی دم،
موقع پر، فوراً۔ حافِرَۃ: ابتدائی اصلی حالت، شروع،
آغاز۔ عِندَ الحافِرَۃ: فوراً موقع پر، وہیں، اس کی
جگہ، اسی دم۔ رجع اِلی حافرتہ: اپنی پہلی حالت
یا اصل کی طرف لوٹنا۔ مَحْفُور: کھودا ہوا، منقش،
نقاشی کیا ہوا۔

حفز: ۱۔ حَفَزَ - حَفْزاً ہُ بالرمح: کو نیزہ سے
مارنا۔

۲۔ حَفَزَ حَفْزاً ہُ: کو اُکسانا، ابھارنا، شہ دینا، پیچھے
سے دھکیلنا۔ کہا جاتا ہے: حفز اللیلُ النہارَ:
رات نے دن کو ہٹا دیا۔ حفزوا علینا الخیلَ و
الرِکابَ: وہ گھوڑے اور سوار لے کر ہم پر چڑھ
آئے۔ ۔۔ ہ عن کذا: کو سے دور کرنا، سے جلدی
کرانا۔ تَحَفَّزَ: کودنے کے لئے تیار ہونا۔ اِحْتَفَزَ:
کودنے کے لئے تیار ہونا۔ ۔۔ فی مشیہ: چلنے میں
کوشش کرنا۔ الحَفُوز من القِسِی: تیر کو تیزی
سے پھینکنے والی کمان۔

۳۔ حَافَزَہُ: کے زانوں یا زانو بیٹھنا، کے قریب ہونا۔
تَحَفَّزَ و اِحْتَفَزَ: کے زانو یا سرین پر سیدھا بیٹھنا۔

۴۔ الحَفَزُ: مدت۔ کہا جاتا ہے: جعلت و بینی و
بینک حَفَزاً: میں نے اپنے اور تمہارے درمیان
مدت مقرر کی۔

○ حَفَزَ - حَفْزاً ہ ب: کو نیزہ چبھونا، کو نیزہ گھونپنا۔
۔۔ ہ علی/الی: کو پر اُکسانا، ابھارنا، کو کی شہ دینا، پر
کے لئے زور دینا، کو پر آمادہ کرنا، کو کی ترغیب دینا۔
تَحَفَّزَ ل/الی: کو کرنے کے لئے تیار ہونا، کو کرنے
کے قریب ہونا، (کو کرنے) کے لئے روانہ ہونا۔ ۔۔:
کودنے کے لئے تیار ہونا، غور سے سننا، توجہ دینا۔
اِحْتَفَزَ لِ: کو کرنے کے قریب ہونا، کے لئے تیار
ہونا۔ تَحَفُّز: تیاری، ہمت، کس بل، دم خم،
جھپٹ، تیز حرکت، زور، جوش، تیز حرکت۔ حَافِز
جمع حَوافِز علی: کے لئے مہمیز، تحریک، رجحان،
میلان۔ ۔۔: پہلا قدم، ابتدائی کارروائی، اقدام۔
مُتَحَفِّز لِ: کے لئے تیار۔

حفس: حَفَسَ - حَفْسًا: کھانا۔ تَحَيَّفَسَ: بستر
پر تلملانا۔ الحَيْفَس و الحَيْفَس: وہ موٹا جس
سے بھلائی کی امید نہ ہو، بلاوجہ راضی یا غصہ ہونے
والا۔

حفش: ۱۔ حَفَشَ - حَفْشًا القومُ علیہ: پر قوم کا
جمع ہونا۔ ۔۔ السیلُ: سیلاب کا پانی ایک جگہ جمع
ہونا۔ ۔۔ السیلُ الوادیَ: سیلاب کا وادی کو پانی
سے بھر دینا۔ الحَافِشَۃ جمع حَافِشات و
حَوافِش: پانی کے بہاؤ کی جگہ۔

۲۔ حَفَشَ - حَفَشَاتِ السحابۃُ: بادل کا یکبارگی
زور کی بوچھاڑ برسا کر رک جانا۔ الحَفْشَۃ:
بارش کی زور کی بوچھاڑ۔

۳۔ حَفَشَ - حَفْشًا المطرُ الارضَ: بارش کا زمین
پر روئیدگی ظاہر کرنا۔

۴۔ حَفَشَ - حَفْشًا الفرسُ: گھوڑے کا بار بار دوڑنا
اور ہر بار پہلے سے اچھا دوڑنا۔ ۔۔ فی الامر: کسی
کام میں کوشش کرنا۔

۵۔ حَفَشَ - حَفْشًا فلانًا: کو دھکا دینا۔

۶۔ حَفَشَ - حَفْشًا ہُ: کا چھلکا اُتارنا۔

۷۔ حَفَّشَ و تَحَفَّشَ الرجلُ: خیمہ یا جھونپڑے میں
رہنا۔ الحِفْش جمع اَحْفَاش و حِفَاش:
جھونپڑا، خیمہ۔ اَحْفَاشُ البیت: گھر کے سامان کی
معمولی چیزیں۔ ۔۔ الارض: سیہی، جنگلی چوہا وغیرہ۔

۸۔ الحِفْش جمع اَحْفَاش و حِفَاش: بوسیدہ چیز،
کوہان، ٹوکری۔

حفص: حَفَصَ - حَفْصًا الشیءَ: کو جمع کرنا۔ ۔۔
الشیءَ من یدہ: کو ہاتھ سے پھینکنا۔ الحَفْص
جمع اَحْفَاص و حُفُوص: چھوٹا گھر، چمڑے کا تھیلا
(ح) شیر کا بچہ۔ الحَفَص: بیر وغیرہ کی گٹھلی۔
المِحْفَصَۃ: چمڑے کا تھیلا۔ الحُفَاصَۃ: جمع کردہ
اشیاء۔

حفض: ۱۔ حَفَضَ - حَفْضًا العودَ: لکڑی کو ٹیڑھا
کرنا، موڑنا۔

۲۔ حَفَضَ - حَفْضًا و حَفَّضَ الشیءَ: چیز کو ہاتھ
سے پھینکنا، ڈالنا۔ ۔۔ القومَ: قوم کو اپنے پیچھے چھوڑ
دینا۔ ۔۔ اللّٰہُ عنہ: اللہ تعالیٰ کا کسی سے تخفیف کرنا۔

۳۔ حَفَضَ - حَفْضًا و حَفَّضَ الارضَ: زمین کو
خشک کرنا۔

۴۔ الحَفَض جمع اَحْفَاض و حِفَاض: بورا جس میں
قوم کا سامان ہو، گھر کا سامان جو لادنے کے لئے تیار
کیا گیا ہو، اونٹ جو گھر کا سامان اٹھائے (کہا جاتا
ہے: نِعْمَ حَفَضُ العلمِ ھذا: یہ علم کیا خوب
جاننے والا ہے)، بالوں کا خیمہ، کمزور اونٹ۔ کہا جاتا
ہے: انہ لحَفَضُ عِلْمٍ: وہ کم علم ہے، گویا اس شخص
کے علم کو چھوٹے اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔

حفظ: ۱۔ حَفِظَ - حِفْظًا الشیءَ: کو ضائع ہونے
اور تلف ہونے سے بچانا، کو خراب ہونے سے محفوظ
کرنا۔ ۔۔ المالَ: مال کی نگہبانی کرنا۔ السِرَّ:
بھید چھپانا۔ حَافَظَ حِفَاظًا و مُحَافَظَۃً علی
الامر: کسی امر پر ہمیشگی اختیار کرنا، کی نگہبانی کرنا۔
۔۔ عنہ: کی مدافعت کرنا، کو ہٹانا۔ کہا جاتا ہے: انہ
لذو حفاظٍ و ذو مُحَافَظَۃٍ: وہ خوددار اور آن بان
کا آدمی ہے۔ تَحَفَّظَ بہ: کو یاد کرنے کی تکلیف
دیا جانا۔ ۔۔ عنہ و منہ: سے بچنا، احتراز کرنا۔
اِحْتَفَظَ بہ: کو یاد کرنا۔ ۔۔ الشیءَ و بالشیء
لنفسہ: کو اپنے لئے مخصوص کرنا۔ اِسْتَحْفَظَ ہ
مالاً: کو مال کی حفاظت کے لئے کہنا۔ ۔۔ ہُ سِرًّا:
سے بھید کی حفاظت کرنے کی درخواست کرنا۔
الحافِظ جمع حُفَّاظ و حَفَظَۃ و حَافِظُون (فا):
کسی چیز کا ذمہ دار۔ (کہا جاتا ہے: رجلٌ حافِظُ
العُین: وہ شخص جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو)۔ واضح سیدھا
راستہ جس کے نشان نہ مٹے ہوں (کہا جاتا ہے:
طریقٌ حافِظٌ: واضح راستہ جو ختم نہ ہو)۔ ۔۔ من
الملائکۃ: اعمال نامے لکھنے والا فرشتہ۔ الحَفِیظ:
محفوظ۔ ۔۔ من الملائکۃ: اعمال نامے لکھنے والا
فرشتہ۔ الحِفْظَۃ: لائق حفاظت شئے کے لئے
جذبہ حمیت۔ الحَفِیظَۃ جمع حَفَائِظ: محارم کی
حفاظت، جذبہ حمیت، بچوں کی حفاظت کا تعویذ۔
اھل الحَفَائِظ: محارم کی نگہبانی کرنے والے۔
المُحَافِظ: حاکم، گورنر، غیبت اور حق صحبت کی
حفاظت کرنے والا۔ مُحَافِظ البَلَد: محافظ شہر۔
المِحْفَظَۃ: بٹوا۔

۲۔ حَفِظَ - حِفْظًا الکتابَ: کتاب کو زبانی یاد کرنا۔
حَفَّظَ ہُ الکتابَ: کو کتاب زبانی یاد کرانا، از بر
کرانا۔ تَحَفَّظَ الکتابَ: کتاب کو تھوڑا تھوڑا
کر کے یاد کرنا۔ الحِفظ (مص): یاد، ہوشیاری۔
الحافِظَۃ: قوت حافظہ، یاد کرنے کی طاقت۔

۳۔ اُحْفِظَ ہُ و احْتَفَظَ: کو غصہ دلانا تو اس کا غضبناک
ہونا۔ الحِفْظَۃ و الحَفِیظَۃ: غضب، غصہ۔
المُحْفِظَۃ جمع مُحْفِظَات: غصہ کا محرک کام۔
المُحْفِظَات: مصیبتیں۔

○ حَفِظَ - حِفْظًا ہ: کو محفوظ کرنا، کی حفاظت کرنا۔ ۔۔
ہ: کو بچانا، محفوظ رکھنا، پناہ دینا، کی حفاظت کرنا،
پاسبانی کرنا، کا بچاؤ کرنا، کی دستگیری کرنا، کا دفاع
کرنا۔ ۔۔ ہ: کا پاس کرنا، مشاہدہ کرنا، کو یاد رکھنا،
ذہن میں رکھنا، پر عمل کرنا، کا خیال رکھنا، کو اصلی حالت
میں رکھنا، برقرار رکھنا، اسی طرح جاری رکھنا، کو

سنبھالے رکھنا، رہنے دینا، کی تائید کرنا، حفاظت کرنا، کو محفوظ کرنا، بچا کر رکھنا، پس انداز کرنا، سنبھال کر رکھنا، مستقبل کے طمع لئے جمع کرنا، بچائے رکھنا، کو یاد رکھنا، زبانی یاد کرنا۔ ـ لنفسه ہ: اپنے لئے کسی چیز کو مخصوص کرنا۔ ـــ التحقيق: عدالتی تحقیق کو روکنا، معطل کرنا۔ حفظه اللّٰه: اللہ تعالیٰ اسے حفظ واماں میں رکھے! حفظ بالبريد ہ: کو ڈاکخانہ کی معرفت بھیجنا تا کہ مُرسَل آ کر وصول کرلے۔ يُحْفَظُ في البوسطة: ڈاکخانہ کی معرفت ارسال شدہ چیز جو مُرسَل الیہ وہاں جا کر وصول کرے۔ حفظ الوَفاءَ لِ: کا وفادار ہونا، سے قول نبھانا، وعدہ پورا کرنا۔ حفظ ہ ہ: کو کوئی چیز زبانی یاد کرانا۔ حَافَظَ على: کو محفوظ کرنا، برقرار رکھنا، کو سنبھالے رکھنا، اسی طرح جاری رکھنا، قائم رکھنا، کی نگرانی کرنا، پر تسلط قائم رکھنا، کو قابو میں رکھنا، پر کنٹرول کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، کی حفاظت کرنا، کے بارے میں محتاط ہونا، کی نگہداشت کرنا، کا خیال رکھنا، کی دیکھ بھال کرنا، کو ذہن میں رکھنا، پر عمل کرنا، کو اختیار کرنا، پر توجہ دینا۔ ـــ على/ عن/ ہ: کی حفاظت کرنا، پاسبانی کرنا، کا بچاؤ کرنا، کا دفاع کرنا۔ أَحْفَظَ ہ: کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، دق کرنا، کو تکلیف پہنچانا، کے دل کو ٹھیس پہنچانا۔ تَحَفَّظَ ب: کو برقرار رکھنا، کو محفوظ کرنا، کو اسی طرح جاری رکھنا، قائم رکھنا، کو ذہن میں رکھنا، کا خیال رکھنا، کے متعلق ہونا۔ ـ: محتاط ہونا، ہوشیار ہونا، چوکنا ہونا، ہوشیار ہونا، الگ ہونا، علیحدہ ہونا، کم آمیز ہونا، پیچھے پیچھے رہنا، تحفظات رکھنا، شکوک و شبہات رکھنا۔ احتفظ ہ/ب: کو برقرار رکھنا، بحال رکھنا، کی تائید و حمایت کرنا، کی حفاظت کرنا، کی حفاظت یا نگرانی سنبھالنا۔ ـــ ب: کی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا۔ ـــ ب: (قبضہ) برقرار رکھنا، کسی چیز کو محفوظ کرنا، جاری رکھنا، برقرار رکھنا، رہنے دینا۔ ـــ ب: پر قابض ہونا، کا مالک ہونا، کو رکھنا، کو محفوظ رکھنا، کو صندوق وغیرہ میں رکھنا، کی حفاظت کرنا، کو رکھنا، رہنے دینا۔ احتفظ لنفسه ہ/ب: کو اپنے لئے رکھنا، مخصوص کرنا۔ ـــ ہ: کا مکمل قبضہ لینا۔ اِسْتَحْفَظَ ہ/على: سے کی حفاظت کیلئے کہنا، کے سپرد کچھ کرنا۔ ـ ہ/على ہ: کو کسی ذمہ داری میں دینا۔ حِفظ: حفاظت، برقرار رکھنا، قائم رکھنا، جاری رکھنا، نگرانی، تحفظ، بچاؤ، دفاع، پاسبانی، گودام میں رکھنا، قبضہ رکھنا، بجا آوری، تعمیل، یاد کرنا، ازبر کرنا، حافظہ، یاد، قوت حافظہ، قانونی کارروائی یا عدالتی تحقیق کا تعطل، التواء، رک جانا، جاری نہ رہنا۔ حِفْظُ الآثار: قدیم یادگاروں کی حفاظت۔ حفظُ الصحة: حفظان صحت، صحت و صفائی۔ رِجالُ الحفظ: پولیس۔ حِفْظَة: غصہ، ناراضگی، خفگی، بغض، کینہ، عناد۔ حِفاظ جمع حِفاظات: بند، پٹی، مرہم پٹی۔ حِفاظ الحيض: ایام حیض میں استعمال کا تولیہ یا گدی۔ حفيظ: متوجہ، چوکس، ہوشیار، آگاہ، محتاط، لحاظ کرنے والا، ـــ على: کو محفوظ کرنے والا، کی پاسبانی کرنے والا، رکھنے والا۔ حَفِيْظَة جمع حَفَائِظ: بغض، کینہ، عناد، ناراضگی، خفگی، غصہ۔ مِحْفَظة و مَحْفَظَة جمع محفظات و مَحَافِظ: فولڈر بیگ، جزدان، تھیلہ، بستہ، دستی بیگ، بریف کیس، ڈسپیچ کیس، چمڑے کا بیگ، قلمدان وزارت، سفری تھیلہ، اوزار رکھنے کا تھیلہ، بٹوا، پاکٹ بک۔ مِحْفَظة: کیپسول (capsule)۔ تحفيظ: یاد کرنے کی مشق۔ تحفيظ القرآن: قرآن مجید کی دلنشینی۔ مُحَافظة من: مصیبت سے بچاؤ۔ مُحَافَظَة: قلعہ یا شہر کی حفاظتی فوج (garrison)، جمع مُحَافظات: ڈویژن (مصر میں پانچ انتظامی ڈویژن ہیں)، دفتر محافظ یعنی کمشنر، صوبہ (شام میں)، قدامت پسندی، قدامت پسند رویہ۔ مذهبُ المحافظة: قدامت پسند تحریک، قدامت پسندی، رجعت پسندی (Torryism)۔ تحفظ جمع تحفظات: احتیاط، احتیاطی تدبیر، شرط، قید۔ مَعَ التحفظ: کامل وجوہ کے ساتھ۔ تَحَفُّظِيّ: احتیاطی۔ اِجْرَاءَات تحفظية: احتیاطی تدابیر۔ صُلْحٌ تحفظي: عمل سے قبل تسویہ، احتیاطی تسویہ۔ حافِظ: محافظ، نگہبان، نگران، سرپرست، داروغہ، رکھوالا جمع حُفَّاظ و حَفَظَة: قرآن مجید کا حافظ۔ حافظة: یادداشت، حافظہ، جمع حَوَافِظ: بٹوا، پاکٹ بک، منی آرڈر۔ مَحْفُوظات: مربہ جات، ڈبے میں بند چیزیں، تاریخی دستاویزات، زبانی یاد کیا ہوا مواد، جسے لوگ دل میں محفوظ کئے ہوں۔ دار المحفوظات المصرية: مصر کا پبلک ریکارڈ کا دفتر۔ ماكولات مَحْفُوظة: ڈبو میں بند کھانے کی اشیاء۔ جميع الحقوق محفوظة: تمام حقوق محفوظ ہیں۔ مُحَافِظ: نگرانی کا، کنٹرول کا، قدامت پسند۔ (المحافظون: برطانیہ کی سیاسی قدامت پسند جماعت کے ارکان)۔ محافظ، نگہبان، نگران، داروغہ، رکھوالا، سرپرست، سپروائزر، سپرنٹنڈنٹ، میئر، گورنر، ڈائریکٹر جنرل، صدر۔ مُتَحَفِّظ: چوکنا، چوکس، ہوشیار، محتاط، کم گو، کم آمیز، الگ، علیحدہ، متین، سنجیدہ، باوقار۔ مُسْتَحْفَظ جمع مُسْتَحْفَظَات: محفوظ (فوج)۔

حفل: ۱۔ حَفَلَ - حَفْلاً و حُفُولاً و حَفِيلاً الماءُ: پانی کا بکثرت جمع ہونا۔ ـ الوادیْ بالسيل: وادی کا سیلاب سے کناروں تک بھر جانا۔ ـت السماءُ: آسمان کا زیادہ بارش برسانا۔ ـ الدمعُ: آنسو کا کثرت سے ہونا۔ ـ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ حَفَّلَ ہُ: کو احتیاط سے اکٹھا کرنا۔ ـ الناقةَ: اونٹنی کو دوہنا بند کر دینا تا کہ اس کے تھنوں میں دودھ جمع ہو جائے۔ تَحَفَّلَ اللبنُ: دودھ کا جمع ہو جانا۔ ـ المجلسُ: مجلس کا لوگوں سے بھر جانا۔ اِحْتَفَلَ الوادی بالسَيل: وادی کا سیلاب سے کناروں تک بھر جانا۔ ـــ القوم: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ ـ المجلسُ بالناس: مجلس کا لوگوں سے بھر جانا۔ اِحْتَفَلُوا به: کی تعظیم و تکریم کے لئے لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ حَافِلٌ جمع حُفَّل و حَوَافِل (فا): کہا جاتا ہے: جمعٌ حافِلٌ: بڑی جماعت۔ ضرعٌ حافِلٌ: دودھ سے بھرا ہوا تھن۔ وادٍ حافِلٌ: سیلاب سے بھری ہوئی وادی۔ ناقةٌ او شاةٌ حافِلٌ: بہت دودھ والی اونٹنی یا بکری۔ دارٌ حافِلةٌ: افراد خانہ سے خوب بھرا ہوا گھر۔ سُوقٌ حافِلةٌ: بھرا ہوا بازار۔ الحافِلة الكهربانية: برقی ٹرین کا ڈبہ۔ الحَفْل (مص): جماعت، گروہ، کہا جاتا ہے: عنده حفلٌ من الناس: اس کے پاس لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ جمعٌ حَفْلٌ: بڑا گروہ۔ الحَفِيل: بہت، کثیر، جیسے جمع حفيل: بڑی جماعت اور مكانٌ حفيل: بھری ہوئی جگہ۔ الحُفَال: بڑی جماعت، بہت جمع شدہ دودھ۔ الحَفْلة: اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے: حفلة خطابية و حفلة تكريمية و حفلة غنائية: تقریری جلسہ، کسی اعزاز میں دی گئی پارٹی، نغمہ و سرور کا جلسہ، سرود منڈلی۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا بحفلتهم و بحفيلتهم: وہ سب کے سب آئے۔ الحَفَلَى: دعوت عام۔ المَحْفِل جمع مَحَافِل: مجلس، جمع ہونے کی جگہ۔ المُحْتَفَل: جمع ہونے کی جگہ۔ مُحْتَفَلُ الأمر: معاملہ کا بڑا حصہ۔

۲۔ حَفَلَ - حَفْلاً و حُفُولاً و حَفِيلاً الشيءَ: کو صیقل کرنا۔ حَفَّلَ الشيءَ: کو صیقل کرنا۔ اِحْتَفَلَ الطريقُ: راستہ کا واضح ہونا۔ ـ الشيءُ: روشن ہونا۔

۳۔ حَفَلَ - حَفْلاً و حُفُولاً و حَفِيلاً: پرواہ کرنا۔

کہا جاتا ہے: ما حفله و ما حَفَلَ به: اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ حَفَّلَ ہُ: کو مزین کرنا، سجانا۔ تَحَفَّلَ: مزین ہونا۔ اِحْتَفَلَ: پرواہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: ما اِحْتَفَلَ به: اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ۔ بالامر: کو حسن انتظام سے کرنا۔ ۔ في الأمر: میں مبالغہ کرنا۔ الحفيل: مبالغہ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ حفيلٌ: ہر چیز میں مبالغہ کرنے والا، بعض کے نزدیک سخت جدوجہد کرنے والا۔ الحَفْلة: اسم مرّة۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَ للامر حَفْلَتَهُ: اس نے کام میں کوشش کی۔

۲۔ الحُفَالَة: ہر چیز کا ردی حصہ، رذیل لوگ۔ حُفَالَةُ الطعام: جو چیز کھانے میں سے نکال کر پھینک دی جائے۔ ۔ اللبنِ: جھاگ۔

○ حَفَلَ ۔ حَفْلاً: جمع ہونا، اکٹھا ہونا، افراط سے بہنا۔ ۔ ب: سے بھرا ہونا، معمور ہونا، کی کثرت سے ہونا۔ ۔ ب/ل: کی طرف توجہ کرنا، پر توجہ کرنا، سے دلچسپی لینا، کو بڑی اہمیت دینا، کی قدر کرنا، کو اہم سمجھنا۔ لاحَفَلَ به: غیر جانبدار، نہ حامی نہ مخالف۔ غیر اہم۔ حَفَّلَ ہ ب: کو سے آراستہ کرنا، سجانا، کی سے آرائش کرنا، کا سے سنگار کرنا، کو سے مزین کرنا، کی سے زیبائش کرنا، کو سے خوبصورت یا خوشنما بنانا۔ اِحْتَفَلَ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا۔ ۔ ب: کی تعریف کرنا، کا جشن منانا، ۔ ب/ل: سے دلچسپی لینا، میں مصروف ہونا، پر توجہ کرنا، کی طرف توجہ کرنا، پر توجہ یا سعی مرکوز کرنا۔ ۔ ب: کی تکریم کرنا، کو خوش آمدید کہنا، کا مہربانی سے استقبال کرنا۔ حَفْل: اجتماع، بھیڑ، شو، پروگرام، عوامی کھیل، تقریب، دعوت، ضیافت، جشن۔ حَفْلَة جمع حفلات: اجتماع، پارٹی، (سماجی یا عوامی) کھیل، شو، پروگرام (سینما، تھیٹر کا)، نغمہ و سرور کا جلسہ، جشن، میلہ، تقریب، تہوار، مسرت کا موقعہ۔ حفلة التابين: مرنے والے کی یاد کی تقریب۔ حفلة دينية: مذہبی تقریب، عیسائیوں کی نماز باجماعت۔ الحفلة الأولى: پریمیئر شو (premiere)۔ حفلة حَافِلة: بڑا اجتماع۔ حفلة خَيرِيَّة: چیریٹی پروگرام۔ حفلة الدفن: تقریب تدفین، دعا۔ حفلة ساهرة یا حفلةُ سَمَر: شام کی پارٹی، محفل شب۔ حفلة سينمائية: فلمی شو۔ حفلةُ الشاي: ٹی پارٹی۔ حفلةُ العُرس: تقریب شادی۔ حفلة الإستقبال: (عوامی) استقبالیہ۔ حفلة موسيقية: نغمہ و سرود کا جلسہ۔ حفيل: سرگرم، محنتی، مستعد۔ مَحْفِل جمع مَحَافِل: مجلس، اجتماع، جماعت، اجلاس، پارٹی، حلقہ، جسم، اجتماع گل، محفل ماسونی، فری میسن کی جلسہ گاہ۔ المحافِل الرسمية (السياسية): سرکاری (سیاسی) حلقے۔ اِحتِفَال جمع احتفالات: تقریب، جشن، میلہ، خوشی کی تقریب۔ حافِلٌ ب: سے پر، بھرا ہوا۔ حافِل: بالافراط، وافر، لبریز، کثیر، کھچا کھچ بھرا ہوا، بکثرت، رسمی، پر تکلف، شاندار، پر رعب، پر مسرت۔ حَافِلة جمع حافِلات وَ حَوَافِل: آٹو بس۔ المحتفلون: کسی تقریب میں شرکت کرنے والے۔ محتَفَل: جمع ہونے کی جگہ، پارٹی۔ مُحتَفَل به: جسے منایا گیا ہو، جس کا جشن منایا گیا ہو۔

حفن۔ ۱۔ حَفَنَ ۔ حَفْنًا لهُ: کو لپ بھر دینا۔ ۔ الشيءَ: کو لپ بھر لینا۔ اِحْتَفَنَ الرجلَ: کو دونوں ہاتھ اس کے زانو کے نیچے ڈال کر اٹھانا۔ الحَفْنَة و الحُفْنَة جمع حُفَن: مٹھی بھر، لپ کی مقدار۔ لپ بھر۔

۲۔ اِحْتَفَنَ الشجرةَ: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔

۳۔ اِحتفنَ الشيءَ لنفسه: کو اپنے لئے لینا۔ ۔ من الشيءِ: کو بہت لے لینا۔

۴۔ الحُفْنَة جمع حُفَن: گڑھا۔

○ حَفَنَ ۔ حَفْنًا ہ: کو دونوں ہاتھوں سے نکالنا۔ ۔ ل: کو تھوڑا سا دینا۔

حفا: ۱۔ حَفَا ۔ حَفْوًا فلانًا: کو دینا۔ ۔ ہُ من الشيءِ: کو سے روکنا، منع کرنا، ۔ ہُ اللّٰہُ به: اللہ تعالیٰ کا کسی کو عزت دینا۔ حَفِيَ ۔ حَفًا و حِفَايَةً و حِفَاوَةً و حَفَاوَةً و تِحْفَايَةً به: کا بہت اعزاز کرنا اور اس کے متعلق بہت خوشی کا اظہار کرنا۔ ۔ حَفَاوَةً و أَحْفَى اليه في الوصية: کے متعلق وصیت میں مبالغہ کرنا۔ تَحَفَّى له: کی بہت عزت کرنا۔ اِحْتَفَى به: کا بہت اعزاز کرنا اور سے خوشی کا اظہار کرنا۔ الحَفِيّ جمع حُفَوَاء: عزت و اکرام اور اظہار خوشی میں مبالغہ کرنے والا۔

۲۔ حَفَا ۔ حَفْوًا البرقُ: بادل کے اطراف میں بجلی کا ہلکے سے چمکنا۔

۳۔ حَفَا ۔ حَفْوًا شارِبَهُ: مونچھوں کو خوب اچھی طرح کترنا۔ حَفِيَ ۔ حَفًا: زیادہ چلنے سے پاؤں کا گھس جانا، ننگے پاؤں چلنا۔ صفت: حَفٍ و حَافٍ جمع حُفَاة۔ ۔ الفرسُ: گھوڑے کا گھسے ہوئے کھر والا ہونا۔ أَحْفَى الرجلُ: گھسے ہوئے کھر دل والے جانور کا مالک ہونا۔ ۔ شارِبَهُ: مونچھیں کترنے میں مبالغہ سے کام لینا۔ اِحْتَفَى: ننگے پاؤں چلنا، جوتے اتارنا۔ ۔ القومُ المرعَى: چراگاہ میں کچھ نہ چھوڑنا۔ ۔ البقلَ: سبزی کو اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے انگلیوں کے پوروں سے اکھیڑنا۔ الحَفَاء: کھر یا پاؤں کی گھسائی۔ الحِفايَة و الحُفْوَة و الحِفيَة: بمعنى الحفاء۔

۴۔ حَفِيَ ۔ حَفًا عنه: کی حالت بہت پوچھنا۔ اَحْفَى إِحْفَاءً السؤال: سوال کو بار بار دہرانا۔ ۔ ہُ: سے اصرار کرنا، کو خبر معلوم کرنے پر اُکسانا۔ اِسْتَحْفَى ہُ عن كذا: کسی شخص سے کسی چیز کے متعلق مبالغہ سے دریافت کرنا۔ الحَفِيّ جمع حُفَوَاء: کسی کا حال معلوم کرنے کے لئے سوال بہت کرنے والا، سوال پر اصرار کرنے والا، کسی چیز کے متعلق پورا پورا علم رکھنے والا۔

۵۔ حَافَى مُحَافَاةً ہُ: سے گفتگو میں جھگڑنا۔ تَحَافَيا إلى السلطان: فیصلہ کے لئے بادشاہ کے پاس جانا۔

۶۔ اَحْفَى إِحْفَاءً به: پر عیب لگانا۔

۷۔ تَحَفَّى في الشيء: میں بہت کوشش کرنا۔

حفي: دیکھو حَفَا۔

○ حَفِيَ ۔ حَفَاوَة ب: کا مہربانی اور مہمان نوازی سے استقبال کرنا، کو خوش آمدید کہنا، کا اعزاز کے ساتھ استقبال کرنا، کی عزت و اکرام کرنا۔ تَحَفَّى ب: سے محبت کا برتاؤ کرنا، سے پیار کرنا۔ اِحتفى ب: بمعنى تَحَفَّى ب: نیز احتفى ب: (کوئی موقع، تہوار وغیرہ) منانا۔ حَفِيٌّ ب: کو خوش آمدید کہنے والا، کا مہربانی سے استقبال کرنے والا، کا خیر مقدم کرنے والا۔ حَفَاوَة ب: کسی کا دوستانہ استقبال، کو خوش آمدید کہنا، کو سلام کرنا، آداب و تسلیمات کہنا۔ اِحْتِفَاء ب: کا استقبال، کو خوش آمدید کہنا، آداب و تسلیمات کہنا۔ اِحتفاء: جشن، تقریب، میلہ، چہل پہل۔ حَفِيَ ۔ حَفَاءً: ننگے پاؤں چلنا، سوجے ہوئے پاؤں والا ہونا۔ حَافٍ جمع حُفَاة: ننگے پاؤں (چلنے والا)۔

حق: ۱۔ حَقَّ ۔ حَقًّا ہُ: پر حق میں غالب آنا۔ حَاقَّ مُحَاقًّا و حِقَاقًا ہُ في الامر: سے کسی معاملہ میں جھگڑا کر کے اپنی حقداری کا مدعی ہونا۔ کہا جاتا ہے: ان له كذا و كذا لا يُحَاقُّهُ فيه احدٌ: اس کے لئے ایسا ایسا ہے، کوئی اس میں اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اَحَقَّ: حق کہنا۔ ۔ ہُ: پر حق میں غالب آنا۔ تَحَاقًّا: حق کے لئے ایک دوسرے سے جھگڑنا اور فیصلہ کے

لئے جانا۔ اِحْتَقَّ القومُ: ہرایک کا یہ کہنا کہ میرے پاس حق ہے۔ الحَقّ جمع حُقُوق (مص): سچائی۔ (کہا جاتا ہے: لَحَقُّ لا آتیك: بغیر تنوین یعنی قسم ہے حق اللہ کی میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ حَقًّا لا آتیك: بلالام مع تنوین: مندرجہ بالا معنی میں)، انصاف، مال، ملک، حصہ، نصیب۔ الحق المدنی: دیوانی مجموعہ قوانین۔ القانونی (عند المسیحین): ضابطہ، قوانین کلیسائی۔ حُقُوق الدار: گھر کے لوازمات، الحَقَّة: مخصوص حق۔ آپ کہتے ہیں: هذه حَقَّتِی: یہ میرا مخصوص حق ہے۔ الحَاقَّة: قیامت۔ الحقیقة جمع حَقَائِق: حقیقت۔ الحَقَّانِیّ: حق کی طرف منسوب۔

۲۔ حَقَّ ـ حَقًّا و حَقَّةَ الامرُ: ثابت ہونا، واجب ہونا۔ ـــ ـ حَقًّا الامرَ: کو ثابت کرنا، واجب کرنا۔ ـ حَقًّا علیه ان یفعل کذا: پر کچھ کرنا واجب ہونا۔ کہا جاتا ہے: حُقَّ لك ان تفعل کذا و حَقِقْتَ أن تفعل کذا: ایسا کا کرنا تمہارے لئے سزاوار ہے اور تم اس کے کرنے کے لائق ہو۔ حَقَّقَ هُ: کی تاکید کرنا، کو واجب کرنا۔ اَحَقَّ الامرَ: کو واجب کرنا اور حق ثابت کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَحَقَّ علیه القضاءَ: اس نے قضا کو اس کے ذمے واجب کیا۔ تَحَقَّقَ الخبرُ: خبر کا پایہ ثبوت کو پہنچنا۔ اِسْتَحَقَّ هُ: کو ضروری اور واجب قرار دینا، کا مستحق ہونا، کے شایان ہونا۔ ـــ الرجلُ: گناہ کر کے مستحق سزا ہونا۔ ـــ الدینُ: قرض کی ادائیگی کا وقت قریب آ پہنچنا۔ الحَقّ جمع حُقُوق (مص): ثابت شدہ، فیصل شدہ معاملہ، استقلال، ثابت قدمی، لائق۔ کہا جاتا ہے: هو حَقٌّ بکذا: وہ اس کے لائق ہے۔ الحِقّ من الابل: چوتھے سال والا اونٹ یا اونٹنی، وجہ تسمیہ اونٹ کا اس عمر میں بار برداری کے قابل ہو جاتا ہے۔ الحُقَّة جمع حُقّ و حُقَق و حِقَاق: عورت۔ الحِقَّة: حق، واجب۔ الاَحَقّ: اختصاص، بلاشرکت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے: زیدٌ اَحَقُّ بماله: زید کے علاوہ اس کے مال میں کسی اور کا کوئی حق نہیں۔ ۲۔ افعل التفضیل کے معنی میں، جیسے آپ کا یہ کہنا: هو احق من فلان: حق کو دونوں کو پہنچتا ہے مگر وہ فلاں شخص سے زیادہ حق دار ہے۔ الحَقِیق جمع اَحِقَّاء: لائق، سزاوار۔ کہا جاتا ہے: هو حقیقٌ بکذا و حقیقٌ اَن یفعل کذا: وہ اس کے لائق ہے اور وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔ الحقیقة: جمع حَقَائِق: واجب الحمایت چیز۔ کہا جاتا ہے: هو حامی الحقیقة و هو من حماةِ الحقائق: وہ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جس کا دفاع اس کے لئے لازمی ہے۔ المَحْقُوق (مفع): لائق، قابل، سزاوار۔ کہا جاتا ہے: هو مَحْقُوقٌ بکذا او محقوقٌ أن یفعل کذا: وہ اس کے لائق ہے اور وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔

۳۔ حَقَّ ـ حَقًّا الخبرَ: خبر کی حقیقت سے واقف ہو جانا۔ حَقَّقَ القولَ او الظنَّ: کسی قول یا گمان کی تصدیق کرنا۔ تَحقَّقَ الرجلُ الامرَ: مرد کا کسی امر کا یقین کرنا۔ الحَقّ جمع حُقُوق (مص): یقین۔ الحَقَّة: حقیقتِ امر۔ آپ کہتے ہیں: وقفت علی حقة ذلك الامر: میں اس امر کی حقیقت تک پہنچا۔ الحَقِیقَة جمع حَقَائِق: حقیقت، مجاز کا الٹ۔ حقیقةُ الشی: چیز کا منتہا اور اس کی اصل۔

۴۔ حَقَّ ـ حَقًّا العُقْدَةَ: گرہ باندھنا۔ ـــ الرباطَ: فیتہ بندھنا۔

۵۔ حَقَّ ـ حَقًّا الرجلَ: کے وسط سر یا مونڈھے کے گڑھے پر مارنا۔ ـــ الطریقَ: راستہ کے وسط میں چلنا۔ الحُقّ جمع حِقَاق (ع ا): مونڈھے کے سرے کا گڑھا، بازو کے اوپر کا حصہ۔ الحاق (فا): وسط، درمیان۔ کہا جاتا ہے: سقط علی حاق رأسِهِ و جئتهُ فی حاقِ الشتاء و رکب حاقَّ الطریق: وہ اس کے سر کے وسط پر گرا، میں اس کے پاس وسط سرما میں آیا اور وہ راستہ کے درمیان میں چلا۔

۶۔ حَقَّ ـ حَقَّاتِ الحاجةُ: ضرورت کا سخت ہونا۔ اِحْتَقَّ هُ اِلی کذا: اس پر تنگی ڈالنا۔ الحاق (فا): کہا جاتا ہے: اخلفنی حاقُّ الجُوعِ: مجھ کو تیکھی بھوک لگی۔ الحُقَّة جمع حُقّ و حُقَق و حِقَاق: مصیبت۔ الحَقَّة: مصیبت۔ الحاقّة: الحاق کا مونث، آفت۔

۷۔ حَقَّ ـ حَقَقًا الفرسُ: دوڑنے میں گھوڑے کا اگلی ٹانگوں کی جگہ پچھلے پاؤں رکھنا صفت: اَحَقّ۔

۸۔ أَحَقَّ الرَمِیَّةَ: شکار کو تیر اندازی کے وقت ہی مار ڈالنا۔ اِحْتَقَّتِ الطعنةُ به: حملہ کا شکار کو فوراً قتل کر دینا۔

۹۔ اِحْتَقَّ ہ الی کذا: کو تک موخر کرنا۔

۱۰۔ اِحْتَقَّ الفرسُ: گھوڑے کا دبلا ہونا۔ ـــ و اسْتَحَقَّتِ الناقةُ: اونٹنی کا موٹی ہونا۔

۱۱۔ الحُقّ جمع حِقَاق: زمین کا گول ٹکڑا یا پست زمین، (ع ا) سرین کا سرا، مکڑی کا جالا۔ حُقُّ الطیب: خوشبو کی ڈبیہ۔ الحَقّ جمع حُقُوق: موت۔ الحِقّ: اونٹنی جس کے دانت بڑھاپے کی وجہ سے گر گئے ہوں۔ الحُقَّة جمع حُقّ و حُقَق و حِقَاق: چھوٹا برتن۔ الحَاقّ و الحَاقَّة: کسی بات میں کامل۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ شجاعٌ حاقُّ الشجاع: بہادری میں کامل مرد۔ رجلٌ حاقَّةُ الرجل: مردانگی میں کامل مرد۔ الحقیق جمع اَحِقَّاء علی الشیء: کا حریص، لالچی۔ مُحَقَّق: مضبوط۔ کہا جاتا ہے: کلامٌ محققٌ: مضبوط و منظم کلام۔ ثوبٌ مُحَقَّقٌ: مضبوط بناوٹ کا کپڑا۔

○ حَقَّ ـ: سچ ہونا، سچ ثابت ہونا، مصدق ہونا، صحیح ہونا۔ حُقَّ علی: کے لئے ضروری، لازمی، مطلوب یا اشد ضروری ہونا، پر لازم، واجب یا فرض ہونا، کے لئے کافی، مناسب، موزوں، صحیح، برجستہ، برمحل ہونا، کے مطابق ہونا۔ ـــ ل: کے لئے موزوں ہونا۔ یحق له: وہ اس کا مستحق ہے، اس پر اس کا حق ہے۔ حق علیه: وہ اس کا (سزا کا) مستوجب ہے۔ ـ ہ: کی تحقیق کرنا، کا پتہ چلانا، کے بارے میں تسلی کر لینا، کا یقین رکھنا۔ ـــ ہ: کو شناخت کرنا، پہچانتا، پہچان لینا۔ حَقَّقَ ہ: کو سچا کر دکھانا۔ ـــ ہ: امید وغیرہ حاصل کرنا، پالینا۔ ـــ ہ: (خواہش وغیرہ) پوری کرنا۔ ـــ ہ: کو عمل میں لانا، پورا کرنا، کمال تک پہنچانا، پایہ تکمیل کو پہنچانا، کی تکمیل کرنا، کو مکمل کرنا، جامہ عمل پہنانا۔ ـــ ہ: معاہدہ وغیرہ کو عمل میں لانا، یا اسے جامہ عمل پہنانا۔ ـــ ہ: نتائج پیدا کرنا، پر منتج ہونا۔ ـــ ہ: کو معین کرنا، کی تعیین کرنا، کی تحقیق کرنا، کا پتہ چلانا، کو ٹھیک ٹھیک واضح کرنا، کی نشاندہی کرنا۔ ـــ ہ: کو سچا ثابت کرنا، کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا، کو حقیق ثابت کرنا، کو مسلمہ قرار دینا، کو وثوق سے کہنا، دعوی سے کہنا، کو حق جتانا، کو حتمی طور پر بیان کرنا، کو تسلیم کرنا۔ ـــ ہ: کو صحیح طور پر کرنا، کو کرنے میں محتی ہونا، باریک بین ہونا محتاط ہونا۔ حَقَّقَ النظرَ: غور سے دیکھنا۔ ـــ ہ: کا گہرا مطالعہ کرنا، کی تحقیق کرنا، کا بغور مشاہدہ کرنا۔ ـــ ہ: کی تحقیقات کرنا۔ ـــ ہ/فی: کی جانچ پڑتال کرنا، کا جائزہ لینا۔ ـــ فی: کی تحقیقات کرنا، پر عدالت کا تحقیقات شروع کرنا۔ ـــ مع: سے پوچھ گچھ کرنا، عدالت کا کسی کے خلاف مقدمے کی سماعت کرنا۔ حَاقَّ ہ: کے ساتھ حق کے لئے جھگڑنا، کے خلاف حق کے لئے مقدمہ کرنا یا

مقدمہ بازی پر آ آنا۔ اَحَقَّ: سچ کہنا۔ ــــ فی: میں حق پر ہونا۔ ــــ ہ: قانونی دعوی وغیرہ پر اصرار کرنا۔ تَحَقَّقَ: سچ ثابت ہونا، سچ نکلنا، تصدیق ہونا، صحیح ثابت ہونا، حقیقت ہو جانا، حقیقت بننا، عمل میں آنا، جامہ عمل پہننا، پورا ہونا، وصول ہونا، پڑتال کیا جانا، چھان بین کیا جانا، کھوج لگنا۔ ــــ ہ/من: کی تحقیق کرنا، کو معلوم کرنا۔ ــــ ہ: کے متعلق تسلی کر لینا، اطمینان کرنا، یقین کرنا، قائل ہونا، پُر یقین ہونا۔ ــــ ب: کے بارے میں سنجیدہ ہونا۔ اِستَحَقَّ ہ: کا مستحق ہونا، کا دعویدار ہونا، کا دعوی کرنا، کا حق دار ہونا، سزاوار ہونا، مستوجب ہونا، کا مطالبہ کرنا، کی ضرورت پیدا کرنا، کو مطلوبہ بنانا۔ ــ: (رقم وغیرہ کا) واجب الادا ہونا۔ ــــ (نوٹ کا) متوقع ہونا، پوری طرح تیار ہونا۔ یستحق الذکرَ: قابل ذکر۔ لایستحق علیه الرسم: فیس سے مستثنی، مفت، بلا معاوضہ۔ حَقّ: حق، سچائی، درستی، راستی، شرعی قبضہ، جائداد، واجب الادا، واجب، مناسب طریقہ، سچا، تحقیق شدہ، مصدقہ، مستند، حقیقی، حق، منصفانہ، معقول، صحیح، درست، قوی، مضبوط، دانشمندانہ، قانونی، ضابطہ کے مطابق، قانوناً مکمل۔ الحقّ: اللہ تعالی کا ایک صفاتی نام جمع حقوق۔ حقٌّ فی: پر یا میں حق، حق استحقاق، دعوی، قانونی دعوی۔ الحقوق: قانون، علم قانون، اصول قانون، اصول فقہ، قانونی مہارت، قانون دانی۔ حَقًّا: واقعی، درحقیقت، عملاً واقعہ یہ ہے، حقیقتاً، فی الحقیقت، دراصل، فی الواقع، خلوص سے، راستی سے، انصاف سے، جائز طور پر، بجا طور پر، واجباً، جوازاً، قانوناً، واجبی طور پر۔ بِالحقّ: درحقیقت، دراصل، فی الواقع، ٹھیک یا مناسب طریق سے۔ بِحقِّ اور فی حقِّ: جہاں تک اس کا تعلق ہے، کی بابت، کے متعلق، کے بارے میں، کے باب میں۔ هو علی حقّ: وہ حق پر ہے، وہ سچا ہے۔ الحق مَعَكَ: تم سچے ہو۔ الحقُّ علیكَ: تم غلطی پر ہو۔ هو حقٌّ علیك: یہ تمہارا فرض ہے۔ هذا حقّي علیكم: تم اس کے میرے مقروض ہو۔ عرفانًا لِحقّها علیه: اس خاتون کے مرہون منت ہونے کے اعتراف میں۔ مِن حَقِّه: وہ اس کا مستحق ہے۔ كان من حقه أن: اسے چاہئے تھا کہ۔ لهُ الحقُّ فی: وہ، کا مستحق ہے۔ والحقُّ يُقالُ: کہا جا سکتا ہے کہ، یہ بات تسلیم کرنی چاہئے، یہ کہنا ہی جائز ہے۔ عرف حقَّ المعرفة: اچھی طرح جاننا، یقینی طور پر جاننا۔ فهم حقَّ الفهم: مکمل طور پر آگاہ ہونا، سمجھنا، بالکل سمجھنا، پوری طرح ادراک کرنا۔ السعادة الحقّة: سچی یا حقیقی خوشی۔ كُلِّيّةُ الحُقوق: لا کالج۔ حُقّ: سوراخ، گڑھا، خلا، جوف، جوڑ کا خانہ۔ حُقّة: جوڑ کا خانہ، سوراخ، گڑھا۔ حُقّة جمع حُقَق و حِقاق: صندوقچہ، کیس، برتن یا مرتبان، ظرف، جوف، چیز دان (کوئی شے رکھنے کے لئے ڈبہ، بوتل وغیرہ) جمع حُقّات و حُقَق: ایک وزن جسے اُقّہ بھی کہا جاتا ہے۔ اَحَقّ ب: کا زیادہ حق دار، زیادہ مستحق۔ حَقيق جمع اَحِقّاء ب: کا مستحق کے لائق، کا سزاوار، کے مطابق، کا اہل، کے قابل، لائق، مجاز۔ حَقيقة جمع حَقائق: سچائی، حقیقت، امر واقعہ، معاملات کی حقیقی کیفیت، حقائق، سچی طبیعت، جوہر، روح، اصل، حقیقی معنی، صحیح مفہوم۔ حَقيقةً: واقعی، درحقیقت، دراصل، فی الواقع، واقعہ یہ ہے، سچ سچ۔ رأيته علی حقيقته: میں نے اس کی حقیقی طبیعت دیکھی، میں نے اسے دیکھا جیسا کہ وہ فی الحقیقت ہے۔ فی حقيقة الامر: درحقیقت، فی الواقع۔ ليس له حقيقة: یہ درحقیقت موجود نہیں، یہ حقیقی نہیں ہے۔ حقيقي: حقیقی، واقعی، اصلی، مناسب، ذاتی، باطنی، ضروری، لازمی، کھرا، مستند، معتبر، قطعی، صریح۔ حُقوقي: قانون سے متعلق جمع حقوقيون: ماہر قانون، قانون دان، وکیل۔ اَحَقِّيّة: قانونی دعوی، حق، یا استحقاق۔ حَقّاني: صحیح، درست، مناسب، موزوں، جائز، قانونی، ضابطہ کے مطابق۔ حَقّانية: قانون، عدل، انصاف، انصاف پروری، معدلت گستری۔ وزارة الحَقّانية: وزارت انصاف۔ التحقيق أنّ: درحقیقت، یہ یقینی ہے کہ۔ علی التحقيق: فی الواقع، ٹھیک طور پر، معین طور پر، یقیناً، سچی بات تو یہ ہے، درحقیقت، لگی لپٹی رکھے بغیر۔ تحقيق الشخصية: کسی شخص کی شناخت، نشاندہی، شناخت کا ثبوت۔ شهادةُ تحقيق الشخصية: شناختی کارڈ۔ قَلَمُ تحقيق الشخصية: دفتر شناخت۔ تحقيق الذاتية: شناخت، نشاندہی۔ قاضي التحقيق: تفتیشی مجسٹریٹ۔ تحقيقُ الأرباح: منافع کی وصولی (سٹاک مارکیٹ)۔ إحقاقًا لِلحق: تاکہ سچائی عام ہو۔ إستحقاق جمع استحقاقات: اہلیت، قابلیت، سزاواریت، لیاقت، استحقاق، واجب الادا رقم، کرتوت، کردار (جو جزا یا سزا کا مستحق ہو)، پختگی، واجب الادائی، مطالبہ، حق، واجب الادا رقم کی واپسی کی درخواست، بیگناہی کا ثبوت، برأت۔ عا...

استحقاق: مستحق طور پر، انصاف سے، حق کے طور پر۔ بِدُون استحقاق: بغیر حق کے، بغیر استحقاق۔ تاریخ الاستحقاق: بونڈ وغیرہ کی واجب الادائیگی کی تاریخ۔ مَحْقُوقٌ ب/ل: کے لئے موزوں، کا اہل، مستحق، حقدار۔ مَحْقُوق: غلطی پر، غلط راستہ پر۔ مُحَقِّق: تحقیقات کرنے والا، تفتیشی مجسٹریٹ۔ مُحَقَّق: یقینی، واقعی، قابل اعتبار، پکا یقینی، شک سے بالا، مسلّمہ، غیر مشتبہ، تسلیم شدہ۔ مِن المُحَقَّق أن: یہ ایک حقیقت ہے کہ، یہ صحیح ہے کہ۔ مُحِقّ: سچ بولنے یا کہنے والا، حق پر۔ مُتَحَقِّق: یقینی، قطعی، قائل، باور شدہ۔ مُستحِقّ: مستحق، دعویدار، لائق، سزاوار (وقف کی آمدنی) پانے والا۔ مستحقُّ الدفع: واجب الادا رقم۔

حقب: ا۔ حَقِبَ ـ حَقَبًا و اَحْقَبَ المطرُ: بارش کا رک جانا۔ ــ العامُ: سال کا بے بارش والا ہونا (مجاز ہے)۔ ــ المعدنُ: معدن کا ختم ہونا، کان میں کچھ نہ رہنا۔ نائِلُ فلان: کسی کی مہربانی و فضل کا کم یا منقطع ہونا۔

۲۔ حَقِبَ ـ حَقَبًا و اَحْقَبَ الامرُ: معاملہ کا خراب ہونا۔

۳۔ اَحْقَبَ ہ: کو اپنے پیچھے سوار کرنا۔ اِحْتَقَبَ زیداً علی ناقته: زید کو اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھانا۔ ــ الاثمَ: گناہ کا مرتکب ہونا۔ و اِستَحْقَبَ الشیءَ: کو کجاوا یا پالان کے پیچھے باندھنا، کا ذخیرہ کرنا۔ الحَقَب جمع حُقُب: اونٹ کا تنگ۔ ــ والحِقاب جمع حُقُب: زیور لٹکانے کا عورت کا کمر بند۔ الحَقيبة جمع حَقائب: سوار کے پیچھے گھوڑے پر بندھنے والی چیز، مسافر کا خوراک وغیرہ رکھنے کا تھیلا۔

۴۔ الحُقْب جمع حِقاب و الحُقُب جمع اَحْقاب و اَحْقُب: اسی سال یا اس سے زائد کا زمانہ، زمانہ، ایک سال یا بہت سے سال۔ الحِقْبة جمع حِقَب و حُقوب: مدت، سال۔ الحِقاب جمع حُقُب: ناخن کی جڑ کی سفیدی۔ الأحْقَب مؤنث حَقْباء (ح): گورخر۔

○ اِحْتَقَبَ ہ: کو اپنے تھیلے میں رکھنا، کو تھیلے میں ڈالنا، پر قبضہ کرنا۔ حُقْب جمع اَحقاب و حِقاب: طویل زمانہ، عرصہ۔ حِقْبة جمع حِقَب: طویل زمانہ، زمانہ، عرصہ وقت۔ حِقبةً من الزمان: لمبے عرصہ کیلئے، کچھ وقت کیلئے۔ حِقَب جمع اَحْقاب و حِقاب جمع حُقُب: ایک قسم کی زیبائشی پٹی۔ حَقيبة جمع حَقائب: سوٹ کیس، سفری تھیلہ، چمڑے کا تھیلہ۔ حقيبة دبلوماسية: سفارتی

کیسہ، تھیلی۔ حَقِیبَۃُ النُّقُود: بٹوا۔ حَقِیبَۃُ الیَد: ہینڈ بیگ، خواتین کا بٹوا یا تھیلا۔

حقد: حَقَدَ - حِقْداً و حَقْداً و تَحَقَّدَ علیه: سے یا کے خلاف کینہ و بغض رکھنا صفت: حَاقِد جمع حَقَدَة۔ اَحْقَدَهُ: کو کینہ ور بنانا۔ تَحَاقَدَ القومُ: ایک دوسرے سے کینہ رکھنا۔ اِحْتَقَدَ علی فلان: کے خلاف یا سے کینہ و بغض رکھنا۔ الحِقْد جمع اَحْقَاد و حُقُود و الحَقِیدَة جمع حَقَائِد: پوشیدہ دشمنی، غضب، کینہ۔ الحَقُود: بہت کینہ رکھنے والا۔

۲۔ حَقَدَ - حِقْداً و حَقْداً و تَحَقَّدَتِ النَّاقَةُ: اونٹنی کا چربی سے بھر جانا۔

۳۔ حَقَدَ - حِقْداً و حَقْداً و تَحَقَّدَ المطرُ: بارش کا رک جانا۔ ـــ المعدنُ: کان کا ختم ہو جانا یعنی اس میں سے کوئی دھات وغیرہ نہ نکلنا۔ اِحْتَقَدَ المطرُ: بارش کا رک جانا۔

○ حَقِدَ - و حَقَدَ - حَقْداً و حِقداً علی: کے خلاف نفرت کے جذبات دل میں رکھنا۔ اَحْقَدَ ہٗ: کو نفرت اور خفگی پر اُکسانا، کو تلخ کرنا، میں زہر بھرنا۔ تَحَقَّدَ: بمعنی حَقِدَ و حَقَدَ۔ تَحَاقَدَ: ایک دوسرے سے نفرت کرنا۔ حِقْد جمع اَحْقَاد و حُقُود: نفرت، بدباطنی، کینہ، بغض، عناد، شر، خفگی۔ حَقُود: نفرت سے بھرا ہوا، کینہ پرور، بُرا ماننے والا، بغض پرور، کینہ جو، بدخواہ، بغض رکھنے والا، کینہ ور۔ حَقَدَة: کینہ ور لوگ، بدخواہ لوگ۔

حقر: حَقَرَ - حَقْراً و حَقُرَ - حَقَارَةً: ذلیل ہونا، صفت: حَقِیر و حَیْقَر و حَیْقُر۔ حَقَرَ - حَقْراً و حُقْرِیَّةً الشیءُ او الرجلُ: کم قدر ہونا، ذلیل ہونا۔ ـ ہٗ: کو ذلیل سمجھنا، حقیر جاننا۔ حَقَّرَ ہٗ: کو ذلیل کرنا، کم قدر کرنا۔ اَحْقَرَ و اِحْتَقَرَ و اِسْتَحْقَرَ ہٗ: کو ذلیل سمجھنا، حقیر جاننا۔ تَحَاقَرَ: اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔ کہا جاتا ہے: تحاقرت الیه نفسُهٗ: وہ ذلیل ہو گیا۔ الحَقَارَة و الحِقَارَة و الحُقَارَة و المَحْقَرَة: ذلت، کم قدری۔ کہا جاتا ہے: هذا الامرُ مَحْقَرَةٌ لك: یہ کام تمہیں حقیر و ذلیل کر دے گا۔ المُحَقَّرَات: چھوٹی اور ادنی چیزیں۔

○ حَقَرَ - حَقْراً ہٗ/ہٗ: سے نفرت کرنا، کو حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، حقیر سمجھنا، گھٹیا یا برا جاننا، کے متعلق بری رائے رکھنا۔ حَقُرَ ـُ: ذلیل ہونا، کمینہ ہونا، قابل یا لائق مذمت ہونا، سفلہ ہونا، حقارت سے دیکھا جانا، نگاہوں سے گرنا، شرمندہ و ذلیل کیا جانا۔ حَقَّرَ ہٗ: کی تحقیر کرنا، کو گھٹا کر دکھانا، میں نقص نکالنا، پر عیب لگانا، کی قدر و قیمت گھٹانا، کو بے وقعت کرنا، حقیر سمجھنا، کو گرا کر دینا، کو بے وقار کرنا، کی قدر گھٹانا۔ ـــ ہٗ/ہٗ: کو ذلیل کرنا، بے قدر کرنا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، سے نفرت کرنا، کو حقیر جاننا، کو گھٹیا یا برا جاننا۔ اِحْتَقَرَ ہٗ/ہٗ: سے نفرت کرنا، کو حقیر جاننا، کو حقارت سے دیکھنا، کو حقیر سمجھنا، گھٹیا یا برا جاننا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا، کو نظر حقارت سے دیکھنا۔ اِسْتَحْقَرَ ہٗ: کو لائق مذمت سمجھنا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا، سے نفرت کرنا، کو حقیر جاننا۔ حَقِیر جمع حُقَرَاء: نیچا، کمینہ، بازاری، سوقیانہ، شرمناک، چھوٹا، تھوڑا، معمولی سا، بے حقیقت، خراب، گھٹیا، بہت ہی تھوڑا، بہت ہی کم، نا قابلِ اعتناء، غریب، مصیبت زدہ، سخت بری حالت میں، ذلیل، حقیر، ذلیل، کمینہ، قابل مذمت، لائق مذمت۔ اَحْقَر: زیادہ کمینہ، زیادہ لائق مذمت یا قابل مذمت۔ حَقَارَة: پستی، گھٹیا پن، سوقیانہ پن، کمینگی، خرابی، شرمناکی، تھوڑا ہونا، غیر اہم ہونا، غربت، خستہ حالی، افلاس، بدنصیبی، فرومائیگی، کمینگی، سفلہ پن، خواری، قابل نفرت ہونا، بدنامی، رسوائی، بے آبروئی، روسیاہی ذلت و خواری۔ تَحْقِیر: ذلت، تحقیر، کمینہ پن، سفلہ پن، اہانت، حقارت، نفرت، رسوائی، تذلیل، خواری، بے قدری، خفت۔ اِحْتِقَار: ذلت، تحقیر، نفرت، حقارت، بیزاری۔ نظر الیه بعین الاحتقار: کو بنظر احتقار دیکھنا۔ مُحْتَقَر: ذلیل سمجھا ہوا، حقیر جانا ہوا، نفرت کیا گیا، قابل نفرت، حقیر، ذلیل، کمینہ، خوار، سفلہ، پاجی۔

حقط: الحَیْقُط و الحَیْقُطان: تیتر، بعض کے نزدیک نر تیتر۔ مونث الحَیْقُطَانَة۔

حقف: حَقَفَ - حُقُوفاً الظبیُ: ہرن کا ریت کے تودہ میں بیٹھنا۔ ہرن کا نیند میں جسم کو ٹیڑھا کر کے بیٹھنا۔ ـ الشیءُ: خمدار ہونا۔ صفت: حَاقِف۔ اِحْقَوْقَفَ: لمبا و ٹیڑھا ہونا۔ الحِقْف جمع اَحْقَاف و حُقُوف و حِقَاف و حِقَفَة ج۔ حَقَائِف: ریت کا لمبا اور پیچ دار قطعہ۔ المِحْقَف: کھانا پینا ترک کرنے والا۔ جو نہ کھائے نہ پئے۔

حقل: ۱۔ حَقِلَ - حَقَلاً و حَقْلَةً البعیرُ او الفرسُ: اونٹ یا گھوڑے کا مٹی کھانے سے پیٹ کے درد میں مبتلا ہونا۔ الحَقَل و الحَقْلَة (طب): سبزہ کے ساتھ مٹی کھانے سے گھوڑے یا اونٹ کے پیٹ میں ہونے والا درد۔

۲۔ حَاقَلَ مُحَاقَلَةً ہٗ: کے ہاتھ کھڑی کھیتی کو پکنے سے پہلے ہی بیچ دینا۔ اَحْقَلَ الزرعُ: کھیتی کا پتے نکالنا (تنا موٹا ہونے سے پہلے)۔ ـ ت الارضُ: زمین کا قابل زراعت ہونا۔ اِحْتَقَلَ: اپنا کھیت لگانا۔ الحَقْل جمع حُقُول واحد حَقْلَة: کھیت، قابل کاشت زمین، سبز کھیتی۔ المَحْقَلَة جمع مَحَاقِل: بویا ہوا کھیت۔

۳۔ اَحْقَلَ الرجلُ في الرکوب: سوار کا سواری کی پیٹھ سے چمٹنا۔ الحِقْل: ہودج، پالکی۔

۴۔ الحَاقِل: کاشتکار۔ الحُقْلَة (بتثلیث الحاء): بچا ہوا دودھ یا پانی، ردی کھجور، کھجور کا بچا کھچا۔

○ حَقْل جمع حُقُول: میدان، کھیت (مجازاً میدان علم وغیرہ)، کالم column۔ حَقل النفط: پٹرول کا کھیت، علاقہ۔ حقول التجارب: تجرباتی میدان۔ حقل کهربائی: برقی میدان۔ حَقْلی: میدانکا، میدان کے متعلق۔ مُحَاقَلَة: اناج کی جب وہ کھیت میں بڑھ رہا ہو فروخت، متفقہ قیمت پر کھیت کے اناج کی فروخت جسے تیار ہونے پر خریدار کے سپرد کیا جائے۔

حقم: الحَقِیمَان (ع ا): آنکھوں کے دو بیرونی کونے۔

حقن: ۱۔ حَقَنَ - حَقْناً ہٗ: کو روکنا، بند کرنا۔ اسی سے ہے: حقن بولَهٗ: اس نے پیشاب روک لیا، ـ دمه: خون کو گرنے سے بچانا۔ ـ ماءَ وجهه: آبرو کی حفاظت کرنا۔ ـ المریضَ: بیمار کا انیما سے علاج کرنا۔ اِحْتَقَنَ المریضُ: بیمار کا پیشاب رک جانا۔ ـ الدمُ: خون کا پیٹ میں خنجر کے گھاؤ سے جمع ہو جانا۔ ـــ المریضَ: بیمار کا حقنہ استعمال کرنا۔ الحُقْنَة جمع حُقَن (طب): ہر وہ دوا جو بیمار کے مقعد سے فضلہ نکالنے کے لئے چڑھائی جائے، انیما۔ الحَقْنَة جمع اَحْقَان: پیٹ درد۔ الحاقِن (فا): جس کا پیشاب بہت جمع ہو جائے۔ ضرب المثل ہے: لا رأی لحاقِن: پیشاب روکنے والے کی رائے میں کوئی وزن نہیں ہوتا، کیونکہ اس حالت میں وہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ گویا ایسے مضطرب شخص کے لئے یہ مثل بولی جاتی ہے جو خود اپنے امر کا مختار نہ ہو۔ الحاقِنة جمع حَوَاقِن: حاقن کا مونث، معدہ۔ المِحْقَن: حقنہ کی پچکاری، پانی کا تالاب، ٹینکی۔ المِحْقان فی استعمال العامّة: عام لوگ اس کو پانی کی ٹینکی یا تالاب کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ پیشاب روکنے والا۔ المِحْقَنَة: حقنہ کی پچکاری۔

۲۔حَقَنَ ـُ حَقْناً اللبنَ: دودھ کو مکھن نکالنے کے لئے مشک میں جمع کرنا۔ اَحْقَنَ: مزیدار بنانے کے لئے کئی طرح کے دودھ جمع کرنا۔ الـحَـقِـيـن جمع حَـقْـنَـى: روکا ہوا، جمع کیا ہوا۔ کہاجاتا ہے: سقاه اللبنَ الحَقِين: اس نے اس کو مشک میں رکھا ہوا دودھ پلایا۔ المِحْقَن: دودھ جمع کرنے کی مشک۔

۳۔الحاقِنَة جمع حَوَاقِن: ہنسلیوں کا درمیانہ حصہ۔ اسی سے یہ مثل ہے: لَأُلْحِقَنَّ حَوَاقِنك بذواقنك: جو تہدید و دھمکی کے موقع پر بولی جاتی ہے۔

○ حَقَنَ ـُ حَقْناً ہ: کو روکنا، روکے رکھنا، دبانا۔ السِرّ: راز کو اپنے تک رکھنا۔ دَمَهُ: پر رحم کرنا، کی جان بخشی کرنا۔ ہ: کو انجکشن لگانا۔ اِحْتَقَنَ: خون کے انجماد میں مبتلا ہونا، پیشاب رکنے کی بیماری میں مبتلا ہونا، انیما، حقنہ یا پچکاری لینا، ٹیکہ لگوانا۔ اِحْتَقَنَ وجهُهُ: اس کا چہرہ سرخ ہوگیا۔ حَقْن: روکنا، بچانا، انجکشن، انجکشن لگانا۔ حقناً لدمائِهم: ان کی جان بچانے کے لئے۔ حقن فى الوريد: رگ یا رگوں میں لگائے جانے والا انجکشن۔ حُقْنَة جمع حُقَن: انجکشن، زیر جلدی انجکشن۔ انیما، حقنہ، پچکاری۔ مِحْقَنَة جمع مَحَاقِن: سرنج۔ اِحتقان: احتقان الدم (جسم کے کسی حصہ میں بہت زیادہ خون کا جمع ہونا)۔ احتقان الدم: رگوں یا نسوں میں خون کا اجتماع۔ محتقن: خون کے اجتماع سے سرخ، سرخ چہرہ۔

حقا: ۱۔حقا ـُ حَقْواً ہُ: کی کوکھ پر مارنا۔ حُقِيَ: درد کمر میں مبتلا ہونا، گوشت کھانے سے درد شکم والا ہونا صفت: مَحْقُوّ و مَحْقِيّ۔ تَحَقَّى: درد کمر کی شکایت رکھنا۔ الحَقْو جمع حِقاء و اَحْقٍ و اَحْقَاء و حُقِيّ: کمر، سرین، پٹھا، کولہ، چڈھا، ازار۔ کہاجاتا ہے: لاذ بِحَقْوَيْهِ: اس نے اس سے فریاد رسی چاہی۔ الحِقاء و الحَقْوَة: ازار یا ازار باندھنے کی جگہ۔

۲۔الحَقْو جمع حِقاء و اَحْقٍ و اَحْقاء و حَقِيّ: پہاڑ کا کنارہ۔ الحِقَاء و الحَقْوَة (طب): گوشت کھانے سے پیٹ میں ہونے والا درد۔

○ حَقْو جمع حِقاء و اَحْقاء: کمر، پٹھا، پیٹ اور ران کے درمیان کا جسم، چڈھا، جانگھ۔ شَدَّ حقويه: کمر بستہ ہونا۔

حكّ: ۱۔حَكَّ ـُ حَكًّا الشیءَ: کا چھلکا اتارنا۔ ــ الشیء بالشیء او عليه: کو سے رگڑنا، کو پر گھسنا۔ ــ و اَحَكَّ اِحْكاكًا و اِحْتَكَّ و اِسْتَحَكَّ ہُ راْسُهُ: سر کھجلانا۔ کہاجاتا ہے: ماحَكَّ جلدَكَ مثلُ ظِفْرِك: تمہاری طرح کوئی اور تمہاری حاجت روائی نہیں کرسکتا۔ تم اپنی ضرورت کو آپ اچھی طرح پوری کرسکتے ہو۔ لفظی ترجمہ: تیری کھال کو تیرے اپنے ناخن کی طرح کوئی چیز نہ کھجلائے گی۔ اِحْتَكَّ بالشیء: کسی شئے کے ساتھ لازم ہونا۔ الحَكّ و الحِكاك: جانور کے کھجلانے کے لئے درخت کا تنہ۔ کہاجاتا ہے: فلانٌ حِكٌّ او حِكاكُ شرٍّ: فلاں شخص بہت شرانگیز ہے۔ الحَكَك: سنگ مرمر کی طرح نرم سفید پتھر۔ الحِكَّة: رگڑ۔ (طب) خارش، کھجلی۔ الحاكّة: دانت۔ کہاجاتا ہے: مابقى فى فمه حاكّةٌ: اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں بچا۔ الحُكاك (طب): کھجلی جیسی ایک بیماری۔ الحَكَكَة: نرم پتھروں والی زمین۔ الحُكاكَة: کھرچن، کھرچ کر اتاری ہوئی چیز۔ الاَحَكّ: تراشہ ہوا کھر، پوپلا، جس کے منہ میں دانت نہ ہوں۔ الحَكَّاك: بہت کھرچنے والا، بہت رگڑنے والا، امتحان کے لئے سونے کو رگڑنے والا۔ المِحَكّ: کسوٹی۔ الجِذْلُ المُحَكَّك: خارشی اونٹ کے کھجلانے کے لئے نصب کیا ہوا تنہ۔ کہاجاتا ہے: انا جُذَيْلُها المُحَكَّك و عُذَيْقُها المُرَجَّب: میری رائے سے اس طرح شفا حاصل کی جاتی ہے جس طرح اونٹ تنہ سے شفا حاصل کرتا ہے۔

۲۔حَكَّ ـُ حَكًّا و اَحَكَّ و احْتَكَّ الكلامُ فى صدره: بات کا دل میں گھر کر جانا۔ کہاجاتا ہے: ماحَكَّ فى صدرى كذا: مجھ کو یہ بات نہیں جچی۔ الحِكّ و الحِكَّة: شک۔ الحَكّاكات واحد حَكّاكة: وسوسے۔

۳۔حَاكَّ مُحَاكَّةً و حِكاكًا الرجلَ: کا مقابلہ کرنا۔ تحاكّا: آپس میں مقابلہ کرنا۔

۴۔اِحْتَكَّ بفلان: کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ تَحَكَّكَ به: کسی کے ساتھ برائی کرنے پر تیار ہونا۔ مثل ہے: تَحَكَّكَتِ العقرب بالحية: بچھو سانپ کو تکلیف دینے پر تیار ہوا۔ یہ مثل اس شخص کے حق میں بولی جاتی ہے جو اپنے سے زیادہ طاقتور سے مقابلہ کرے، جھگڑا کرے۔ تحاكّا: آپس میں مقابلہ کرنا۔ الحُكُك واحد حاكّ: شرپسند لوگ، برے لوگ۔ الاَحْكاك: ہم کفو لوگ۔ کہاجاتا ہے: لستَ من اَحْكَاكِه: تو اس کے آدمیوں سے نہیں۔

۵۔الحَكّ: ملاحوں کا قطب نما آلہ۔ حِكَّة الانف (طب): ناک میں سوزش و جلن جو ٹھنڈی ہوا سونگھنے سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے اور آنسو جاری ہوجاتے ہیں۔ الحَكَك: مونڈھے ہلاتے ہوئے چلنے والی عورت کی مانند چال۔ الحُكُك واحد حاكّ: اپنی حاجتوں کی طلب میں اصرار کرنے والے۔ الحُكاك: بورک ایسڈ، قلمی شورہ۔

○ حَكَّ ـُ حَكًّا: رگڑنا، سہلانا، ملنا، مالش کرنا، کھرچنا، چھیلنا، کھجانا، خارش کرنا۔ ــ ہ: کو رگڑ کر دور کرنا، کھرچ کر اُتارنا یا صاف کرنا، چھیل کر اُتارنا، کو کھرچ دینا، رگڑ ڈالنا، چھیلنا۔ حَكَّ فى صدره: کو متاثر کرنا، کے دل پر اثر کرنا۔ اَحَكَّ: کھجلی ہونا، خارش ہونا۔ تَحَكَّكَ ب: کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑنا، سے کھرچنا، سہلانا، ملنا، مالش کرنا، سے جھگڑا کرنا۔ تَحَاكَّ: ایک دوسرے کے ساتھ رگڑنا، کھرچنا۔ اِحْتَكَّ ب: کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑنا، کھرچنا، سہلانا، ملنا، مالش کرنا، سے رابطہ میں ہونا۔ اِحْتَكَّ فى صدره: اس نے اس کو متاثر کیا، اس پر اچھا اثر ڈالا، کے دل پر اثر کیا۔ حَكّ: رگڑنا، سہلانا، ملنا، مالش کرنا، رگڑ، فرک، کریدنا، چھیلنا، کھجانا، خارش کرنا۔ حِكَّة: خارش ہونا، کھجلی ہونا، خارش کھجلی۔ حَكَّاك: جوہری، جواہرات کو تراشنے اور جلا دینے والا۔ مِحَكّ: کسوٹی، پرکھ، ذریعہ آزمائش۔ ثَبَتَ عَلَى مِحَكِّ النظر: کڑی آزمائش پر پورا اترنا۔ مِحَكَّة: کھرپا۔ تَحَاكّ: باہمی کشمکش، کھچاؤ۔ اِحتكاك جمع احتكاكات: رگڑ، فرک، قریبی رابطہ، کشمکش، کھچاؤ (جیسے نااتفاقی، ان بن، نزاع)۔ مِن غير اِحتكاك: ناچاقی یا مزاحمت کے بغیر۔ مُحَكَّك: مالش کیا ہوا، ملا ہوا، کھجلایا ہوا، رگڑا ہوا، کھجایا ہوا، خراب۔ حُكَّة جمع حُكَك: صندوقچہ، کیس، برتن، مرتبان (حقہ کے معنی میں)۔

حكا: حَكَا ـِ حَكْئاً و اَحْكَأَ العقدةَ: گرہ باندھنا۔ اِحْتَكَأَ العقدةَ: گرہ باندھنا۔ ــ ت العقدةُ: گرہ کسنا، گرہ بندھنا۔ کہاجاتا ہے: اِحْتَكَأَ الشیء فى صدرى: وہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی اور اب مجھے شک نہیں رہا۔ الحُكْأة و الحُكَأة (ح): بڑا گرگٹ۔

حكر: ۱۔حَكَرَ ـِ حَكْراً ہُ: سے بری معاشرت رکھنا، کی زندگی بسر کرنے میں تنگی و مشقت ڈالنا، پر ظلم کرنا، کو گھٹانا۔

۲۔ حَکِرَ ۔ حَکَرًا: اصرار کرنا صفت حَکِر۔ حَاکَرَ مُحَاکَرَۃً ہٗ: سے جھگڑا کرنا، کا مقابلہ کرنا۔

۳۔ حَکِرَ ۔ حَکَرًا بالامر: کو اپنے لئے مخصوص کرنا، میں خود مختار و خودسر ہونا، سامان تجارت مہنگا فروخت کرنے کیلئے روک رکھنا۔ تَحَکَّرَ و اِحْتَکَرَ الشیءَ: کو جمع کرکے اسے اس انتظار میں روکے رکھنا کہ مہنگی ہونے پر زیادہ قیمت پر فروخت کرے گا، مہنگا فروخت کرنے کے لئے غلہ روک رکھنا۔ الحَکَر: مہنگا بیچنے کے لئے روکی ہوئی چیز۔ الحُکَر: بمعنی الحَکَر: فلیٹ کا کرایہ جو اس کا مالک زمین کے مالک کو ادا کرتا ہے، جس پر وہ فلیٹ تعمیر ہو۔ الحُکْرَۃ: غلہ کی بندش۔ الحَاکُورَۃ: گھروں کے نزدیک زمین کا ٹکڑا جو درخت اگانے کے لئے مخصوص کیا جائے، پائیں باغ۔ (عام زبان میں)۔

۴۔ تَحَکَّرَ علیه: پر حسرت وافسوس کرنا۔

۵۔ الحَکَر و الحُکُر: تھوڑا پانی یا کھانا، چھوٹا پیالہ۔ الحُکَرَ: تھوڑا کھانا یا تھوڑا دودھ۔

○ اِحْتَکَرَ ہ: سامان تجارت کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں خرید کر ذخیرہ کرنا اور روک رکھنا، کو من مانا بھاؤ لگانے کے لئے خرید لینا، کسی تجارتی چیز کی اجارہ داری رکھنا، کا اکیلا قابض ہونا، پر اجارہ داری رکھنا۔ حکْر و حُکْر اور اجرۃ الحکر: فلیٹ کا کرایہ جو اس کا مالک زمین کے مالک کو ادا کرے جس پر وہ فلیٹ تعمیر ہو۔ حَکَر و حُکَر: ذخیرہ اندوز کیا ہوا۔ حُکْرَۃ: سامان تجارت کی ذخیرہ اندوزی، اجارہ داری۔ حَاکُورَۃ: پائیں باغ۔ احتکار جمع احتکارات: من مانی قیمت پر فروخت کیلئے سامان تجارت کی خریداری، سامان تجارت کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں خرید کر ذخیرہ کرنا اور روکے رکھنا، اجارہ داری، امتیازی یا ترجیحی حیثیت، برتری، بالادستی۔ اِحتکارُ تجارۃِ البُنّ: کوفی (coffee) کی تجارت پر اجارہ داری۔ اِحتکارُ السکّر: چینی پر اجارہ داری۔ اِحْتِکَارِی: سخت لالچی، حریص، طامع، اجارہ دارانہ۔

حکش: حَکَشَ ۔ حَکْشًا الرجلُ: آدمی کا سکڑنا۔ ۔ الشیءَ: کو جمع کرنا۔ ۔ الرجُلَ: پر ظلم کرنا۔ ۔ السراجَ: لیمپ کا فیتہ، نوکدار لکڑی یا کیل سے باہر نکالنا۔ المِحْکَاش: نوکدار لکڑی یا کیل۔

حکف: حَکَفَ ۔ حُکُوفًا الرجلُ: کام میں سست و ڈھیلا ہونا۔

حکل: ۱۔ حَکَلَ ۔ حَکْلًا و اَحْکَلَ و احْتَکَلَ الامرُ علیه: پر معاملہ دشوار ہونا، مشتبہ ہونا، غیر واضح ہونا۔ الحُکْل: وہ چیز جس کی آواز سنائی نہ دے۔ کہا جاتا ہے: تَکَلَّمَ کلامَ الحُکْل: اس نے ایسی بات کی جو سمجھ میں نہیں آئی۔ الحَکَل فی الفرس: گھوڑے کے ٹخنوں کا ڈھیلا پن۔ الحُکْلَۃ: کلام میں لکنت۔ کہا جاتا ہے: فی لسانه حُکْلَۃٌ: اس کی زبان میں لکنت ہے جس کی وجہ سے بات واضح نہیں ہوتی۔

۲۔ تَحَکَّلَ: جہالت کی وجہ سے اصرار کرنا۔ احُکْلَۃ: جہالت کی وجہ سے اصرار۔

حکم: ۱۔ حَکَمَ ۔ حُکْمًا و حَکُومَۃً بالامر و للرجل او علیه و بینهم: کسی معاملہ کا حکم یا فیصلہ دینا، کے حق میں یا اس کے خلاف اور لوگوں کے درمیان حکم یا فیصلہ دینا۔ حَکَّمَ ہٗ فی الامر: فیصلہ کرنے کے لئے کوئی معاملہ کسی کے سپرد کرنا، کو کسی معاملہ میں ثالث بنانا۔ حَاکَمَ ہٗ اِلی الحاکِم: کو حاکم کے پاس لیجانا۔ ـــــ ہٗ: سے جھگڑا کرنا۔ تَحَکَّمَ فی الامر: کسی معاملہ میں اپنی رائے سے فیصلہ دینا، اپنی مرضی سے تصرف کرنا، میں کا حکم نافذ ہونا۔ تَحَاکَموا اِلی الحاکِمِ: حاکم کے پاس اپنا جھگڑا لیجانا۔ اِحْتَکَمَ النَاسُ الی الحاکم: لوگوں کا حاکم کے پاس اپنا مقدمہ لے جانا۔ ـــــ علی فلانٍ: سے ارادہ کے مطابق طلب کرنا۔ ـــــ فی الشیء: میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا۔ ـــــ فی الامر: کسی معاملہ میں ثالثی منظور کرنا۔ الحُکْم (مص) جمع اَحْکام: فیصلہ۔ الحَکَم: حاکم، فیصلہ کرنے والا (مفرد اور جمع ہر دو کے لئے مستعمل ہے)، حکم جاری کرنے والا، نافذ کرنے والا۔ الحَاکِم جمع حُکَّام و حَاکِمُون: قاضی، جج، گورنر، حکم نافذ کرنے والا۔ المَحْکَمۃ جمع مَحَاکِم: عدالت، کچہری۔ الأُحْکُومَۃ: تحکم فی الامر کا اسم۔

۲۔ حَکَمَ ۔ حُکْمًا و حُکُومَۃً فی البلاد: ملک پر حکومت کرنا، امور مملکت سرانجام دینا صفت حاکِم جمع حُکَّام۔ حَکَّمَ ہٗ: کو حاکم مقرر کرنا۔ الحُکْم جمع اَحْکام: حکومت، امور مملکت کی سرانجام دہی۔ الحُکُومۃ (مص): ارباب حکم و سیاست، حکومت، حیئہ حاکمہ۔

۳۔ حَکَمَ ۔ حَکْمًا: واپس ہونا۔ (کہا جاتا ہے: أَحکمه فحکم: اس نے اسے واپس کیا تو وہ واپس ہو گیا۔ ـــــ الفرسَ: گھوڑے کے منہ میں لگام کا دہانہ لگانا۔ ـــــ ہ عن کذا: سے روکنا، باز رکھنا۔ حَکَمَ ہٗ عن کذا: کو سے لوٹانا، سے منع کرنا۔ أَحْکَمَ ہٗ عن الامر: کو سے رد کرنا، منع کرنا۔ الحَکَمَۃ: لگام کا دہانہ۔ ـــ من الانسان: چہرے کا سامنے کا حصہ، قدر و منزلت۔ کہا جاتا ہے: رَفَعَ اللّٰهُ حَکَمَتَهُ: اللہ تعالیٰ نے اسے سربلند کیا، اور شان بڑھائی۔

۴۔ حَکُمَ ۔ حِکْمَۃً: دانا ہونا۔ اَحْکَمَتْهُ التجاربُ: تجربات نے اس کو دانا بنا دیا۔ ـــــ السفیهَ: نالائق کا ہاتھ پکڑنا یا اسے برے کام کے نتائج سے آگاہ کرنا۔ الحِکْمَۃ جمع حِکَم: حق کے موافق کلام، فلسفہ، کام کی درستی، انصاف، علم بردباری، حلم۔ الحَکِیم جمع حُکَمَاء مؤنث حکیمۃ: دانا، عالم، فلسفی، فلاسفر۔ قصیدۃٌ حَکِیمَۃ: پر دانائی و حکمت قصیدہ۔ الحَکَم من الرجال: عمر رسیدہ آدمی۔ المُحَکَّم: آزمودہ۔ ـــ والمُحَکِّم: اپنے آپ سے انصاف کرنے والا۔

۵۔ اَحْکَمَ الشیءَ: میں ماہر ہونا، کو مکمل کرنا، کے نقائص دور کرنا۔ اِحْتَکَمَ الامرُ: مضبوط ہونا۔ اِسْتَحْکَمَ الامرُ: مستحکم ہونا، کامل و مکمل ہونا۔

۶۔ اِسْتَحْکَمَ علیه الکلامُ: کو بلت اچھی طرح سمجھ میں نہ آنا۔

○ حَکَمَ ۔ حُکْمًا فی/علی: پر فیصلہ دینا، رائے دینا۔ ـــ علی ب: کا سے اندازہ لگانا۔ ـــ علی: پر فیصلہ کرنا، فیصلہ دینا، فیصلہ سنانا۔ ـــ علی ب: کو کوئی سزا سنانا۔ ـــــ ب علی: جرمانہ کسی پر عائد کرنا۔ ـــ ل: کے حق میں فیصلہ دینا۔ ـــ ل ب: کو کوئی چیز دینا۔ ـــ ب: کو بطور معیار یا نمونہ لینا۔ ـــ علی/ہ: پر عدالتی اختیار رکھنا، حاکمانہ اختیار رکھنا، اختیار رکھنا، اقتدار رکھنا، کو تابع رکھنا، مطیع رکھنا، کو قابو میں رکھنا، پر غلبہ یا تسلط رکھنا۔ ـــ ب: کا حکم دینا۔ ـــ ہ/ہ: کو لگام دینا، روکنا، دہانہ لگانا۔ حُکِمَ علیه بالإعدام: اسے سزائے موت سنائی گئی۔ حکم بِاِدَانَتِهِ: کو مجرم قرار دینا، کو مجرم پانا۔ حکم ببراءته: کو بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا۔ حَکَّمَ ہ: کو حاکم مقرر کرنا، کو ثالث کے طور پر چننا۔ ـــ ہ فی/بین: کو میں یا پر یا کے درمیان/مابین جج بنانا۔ حَاکَمَ ہ: پر مقدمہ چلانا، کے خلاف استغاثہ کرنا، کو عدالت میں گھسیٹ کر لے جانا، سے پوچھ گچھ کرنا، کے مقدمہ کی سماعت کرنا۔ اَحْکَمَ ہ: کو مضبوط بنانا، ٹھوس بنانا، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، کو اچھی طرح کرنا، مہارت سے

کرنا، کا ماہر ہونا، میں ماہر ہونا۔ اَحْکَمَ امرَهُ: کو مکمل طور پر، احتیاط سے اور صحیح طور پر کرنا۔ اَحْکَمَ قفل الباب: دروازہ کو مضبوطی سے بند کرنا۔ أَحْکَمَ لغةً: کسی زبان پر حاوی ہونا۔ تَحَکَّمَ فی: میں اپنی مرضی کرنا، حسب مرضی، بے سوچے سمجھے شروع کرنا یا جاری رکھنا، کو من مانے طور پر ہاتھ میں لینا یا سے من مانے طور پر نبٹنا۔ ـ فی: پر آمرانہ فیصلہ دینا۔ ـ علی: اپنے آپ کو کا جج بنانا، پر فیصلہ دینا۔ ــ ب: پر فیصلہ دینا۔ ــ فی: پر حکومت کرنا، حکمرانی کرنا، کو قابو کرنا، پر کنٹرول کرنا، غلبہ یا تسلط رکھنا، کنٹرول رکھنا۔ تحاکم الی الحاکم: ایک دوسرے کو جج کے روبرو لیجانا، إلی: سے فیصلہ کی اپیل کرنا۔ ــ: عدالت میں پوچھ گچھ کیا جانا، سماعت کیا جانا۔ احتکم فی: میں من مانی کرنا، کو اپنی مرضی سے بلا سوچے سمجھے شروع کرنا یا کرتے رہنا، کو آمرانہ طور پر ہاتھ میں لینا یا سے آمرانہ طور پر نبٹنا، یا میں آمرانہ طور پر فیصلہ کرنا۔ ــ فی/علی: پر حکومت کرنا، حکمرانی کرنا۔ ـ علی: پر قابض ہونا، کنٹرول رکھے ہونا۔ ـ الی: فیصلہ کے لئے سے اپیل کرنا، سے فیصلہ کا خواہاں ہونا، سے فیصلہ کروانا۔ استحکم: مضبوط، قوی، ٹھوس، سخت یا ہٹا کٹا اور قوی ہیکل ہونا، مستحکم ہونا، گہری بنیاد والا ہونا یا ہو جانا، مزمن ہونا، گہرا، پکا، پختہ ہونا، پرلے درجے کا سخت ہونا، واضح ہونا، بہت نمایاں ہونا۔ حُکم جمع احکام: فیصلہ، رائے، قیمت کا اندازہ، قانونی فیصلہ، جیوری کا فیصلہ، حکم سزا، سزا کا حکم ملامت، سزادہی، سزایابی، اثبات جرم، انصاف دہی، عدالتی اختیار، حلقہ عدلیہ، کسی مقدمہ کے حقائق کی قانونی منزلت، ضابطہ، قاعدہ، قانونی دستاویز میں موجود شرط یا ضرورت، حکم، فرمان، فیصلہ، ڈگری، دانائی، معاملہ فہمی، ججی، اقتدار، قیادت، اتھارٹی، کنٹرول، حکومت، حاکمیت، اقتدار اعلی، راج، فرمانروائی، نظام حکومت جمع احکام، تحریری قوانین، ذیلی قوانین، ضوابط، قواعد، قانونی دستاویز میں درج شرائط و ضروریات، نصوص، شروط معاہدہ، اصول، اصول اخلاق۔ حُکمًا: قانوناً، اصل میں، فی الواقع، حقیقت میں۔ بِحُکمِ: ازروئے، بموجب، کے بل پر، کے بھروسہ پر، کے مطابق، کی تعمیل میں۔ فی حُکمِ: تقریباً، قریب قریب۔ هو فی حکمِ العدم: یہ تقریباً کچھ نہیں عملاً اس کا کوئی وجود نہیں۔ اصبح فی حکم المُقَرَّر: اس کا تو تقریباً فیصلہ ہو چکا

نزل علی حکمه: کے سامنے جھک جانا، کی بات مان لینا۔ حکمُ البَراءَةِ: بریت۔ حکمٌ حُضُورِیٌّ: مقدمہ کے فریقین کے سامنے دیا گیا فیصلہ۔ الحکم بالاعدام: سزائے موت کا حکم۔ حکمٌ غیابیٌّ: یک طرفہ فیصلہ۔ الحکمُ الذاتیّ: حق خود اختیاری، خود مختاری، آزاد ریاست۔ الحکم الجمهوری: جمہوری طرز حکومت، جمہوری نظام حکومت۔ الحکم المُطْلَق: مطلق العنان، خود مختار نظام حکومت۔ الحکم النِیابیّ: پارلیمنٹری طرز حکومت۔ لَجْنَةُ الحکم: مجلس ممتحنین، ریویو بورڈ، نظر ثانی کی کمیٹی۔ الأَحْکام العُرْفِیَة: مارشل لاء۔ احکامٌ اِنتِقالِیَة: ہنگامی ضوابط۔ احکام خِتَامِیَة: حتمی ضوابط۔ احکام خاصّة: خصوصی ضوابط۔ لِکُلِّ سِنٍّ حِکْمَةٌ: ہر زمانہ کے اپنے دستور ہیں یا قواعد ہیں، ان قواعد کا ان کے اپنے معیار سے اندازہ کرنا چاہیے۔ للضرورة احکام: ضرورت کے اپنے قواعد ہیں، ضرورت کسی قانون کو نہیں جانتی۔ حُکْمِیّ: قانونی۔ حِکْمدار: کمانڈنٹ، پولیس چیف۔ حِکْمدَارِیّة: کمانڈنٹ کا دفتر۔ حَکَمٌ جمع حُکّام: فیصلہ کرنے والا، ثالث، منصف، جج، حاکم، پنچ، ریفری، امپائر (umpire)۔ حِکْمَة جمع حِکَم: دانائی، تیز فہمی، فراست، زیرکی، فلسفہ، حکمت، دانشمندوں کا قول، کہاوت، مقولہ، بنیادی حقیقت، اصل وجہ۔ لِحِکْمَةٍ: کی وجہ سے، کے باعث، کے سبب۔ حِکْمِیّ: کہاوت کا، ضرب المثل، پُر حکمت، حکیمانہ، حکمت آموز۔ الشعر الحکمی: کہاوتی شاعری۔ حَکَمَة جمع حَکَمات: (گھوڑے کے لگام کا) دہانہ۔ حَکِیم جمع حُکَماء: عقلمند، دانا، دانا شخص، معاملہ فہم، عاقل، ذکی، خردمند، حکیم، عالم، عارف، فلاسفر، فلسفی، طبیب، ڈاکٹر۔ حَکِیمباشِی: سینئر ڈاکٹر، چیف سرجن۔ حُکُومَة جمع حُکُومات: حکومت، گورنمنٹ۔ حُکُومِیّ: حکومت کا، حکومتی، سرکاری، حکومت کا ملکیتی، ریاست کے زیر کنٹرول، ریاستی۔ اَحْکَم: زیادہ عقلمند۔ مَحْکَمَة جمع مَحَاکِم: عدالت، خصوصی عدالت، محکمة الاستئناف: عدالتِ اپیل۔ محکمة اهلية: ملکی عدالت (جو صرف اہل وطن کے مقدمات تک محدود ہو)۔ محکمة ابتدائية: ابتدائی عدالت۔ مَحَاکم اهلية: ڈسٹرکٹ عدالتیں۔ محاکم شرعية: شرعی عدالتیں (جواز دواجی اور

الجِنَایات: فوجداری عدالت۔ محاکم الاحوال الشخصية: زندگی پر اثر انداز ہونے والے اعداد و شمار نبٹانے والی عدالت۔ محکمةٌ مُخْتَلِطَةٌ: مخلوط عدالت (غیر ملکی باشندوں پر اختیار سمیت)۔ محکمة شرعیه: اسلامی شریعت کے مطابق انصاف کرنے والی عدالت۔ محکمة مرکزية: ضلعی عدالت۔ محکمة القضاء الاداری: انتظامی عدالت۔ محکمة النقض و الابرام: مصر کی سب سے بڑی عدالتِ اپیل۔ تحکیم: ثالث کی تقرری، ثالثی، تحکیم، ثالثی (کا) فیصلہ۔ تحکیمات: قلعہ بندیاں، قلعے۔ تحکیمُ الحال: کسی عدالت کے فیصلہ کی موجودہ حالت سے آغاز۔ هیئة التحکیم: ثالثی بورڈ، جیوری ججوں کی کمیٹی، امپائروں کی کمیٹی، ریفریوں کی کمیٹی۔ لجنة تحکیمية: بمعنی هیئة التحکیم۔ مُحَاکَمَة: عدالتی کارروائی، (عدالت میں) سماعت قانونی استغاثہ۔ اِحْکَام: تکمیل، درستی، صحت، صحیح کام، درست تعمیل۔ بِالإِحکام: درستی سے صحت سے، ٹھیک ٹھیک۔ بالغ فی الإِحکام: انتہائی طور پر مکمل، مضبوط۔ تَحَکُّم: آمریت، استبدادیت، آمرانہ اختیارات یا عمل، مطلق العنانی، خود مختاری، تسلط، اقتدار، غلبہ، عملداری، فرمانروائی، حکومت۔ ــ فی: پر کنٹرول، قابو۔ تَحَکُّمِی: آمرانہ، استبدادی، جابرانہ، خودسرانہ۔ استحکام: تیز کرنا، زوردار بنانا، شدید کرنا، زیادتی، مضبوط کرنا، استحکام، پائدار کرنا، قلعہ بندی، مورچہ بندی، فوجی استحکامات۔ حاکِم: حکمران، حکومت کرنے والا، تابع رکھنے والا جمع حَاکِمون و حُکّام: حاکم، بادشاہ، گورنر، جج۔ حاکم بِأَمْرِه: ڈکٹیٹر، جابر، خود مختار، مطلق العنان، استبدادی، جابرانہ۔ حاکمٌ عام: گورنر جنرل۔ حاکم المباراة: ایمپائر، ریفری۔ حاکم الصُلح: مجسٹریٹ۔ حاکم الناحية: ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ حَاکِمِیّة: تسلط، حکومت، حاکمیت اقتدار اعلیٰ، ججی، نظام عدالت، عدالتی اختیار، اختیار سماعت، حاکمانہ اختیار۔ محکوم علیه: جسے کسی سزا کا حکم سنایا گیا ہو۔ المحکوم علیهم بالاعدام: جنہیں موت کی سزا کا حکم یا فیصلہ سنایا گیا۔ محکوم علیه بالفشل: جس کا ناکام ہونا مقدر ہو۔ مُحَکَّم جمع مُحَکَّمون: ثالث، ــ فی: میں ایمپائر، ریفری۔ مُحْکَم: مضبوط کیا ہوا، کمک دیا ہوا، مضبوط، ٹھوس، قوی، ہیکل، کسا ہوا، تنا ہوا، کامل، مکمل،

ماہرانہ، ہنرمندانہ، استادانہ، ٹھیک نشانہ والی (کمان، ضرب) صحیح، درست، ٹھیک۔ مُحْکَمُ التدبیر: اچھی طرح منصوبہ بند، اچھی طرح تدبیر والا۔ مُسْتَحْکَم: کمک دیا ہوا، مضبوط کیا ہوا، مستحکم، مضبوط، شدید، سخت، گھر کر چکا، گہری بنیاد والا، پختہ (رواج، وصف وغیرہ) جمع مستحکمات: قلعہ بندیاں، ملک کی حفاظت کیلئے فوجی اقدامات۔

حکی: ۱۔ حَکَی - حِکایةً الخبرَ: خبر بیان کرنا۔

۲۔ حَکَی - حِکایةً عنه الکلامَ: سے کلام نقل کرنا۔ الحَاکِی: فونوگراف، گراموفون۔

۳۔ حَکَی - حِکایةً فلاناً: سے مشابہ ہونا۔ ـــ الشیءَ: کے مشابہ بنانا۔ حَاکَی مُحَاکَاةً ہُ: کے مشابہ یا مانند ہونا۔

۴۔ حَکَی - حِکایةً علیه: کی چغلی کھانا۔ الحَکِیّ: چغل خور (مذکر و مؤنث دونوں کے لئے)۔

۵۔ حَکَی - حِکایةً العقدة: گرہ باندھنا۔ اِحْتَکَی احتکاءً الامرُ: مضبوط ہونا۔

○ حَکَی - حکایةً ہ: کو بتانا، بیان کرنا، کا حال بتانا، کی رپورٹ دینا۔ بولنا، بات کرنا۔ ـــ ہ: کی نقل کرنا، کا نمونہ اتارنا، کا سا بنانا، کا چربہ اتارنا، کی نقل اتارنا، کا سا ہونا، جیسا ہونا۔ ـ ہ/ہ: کے مشابہ ہونا، مانند ہونا۔ حَاکَی ہ: کی نقل کرنا، کا نمونہ اتارنا، کی نقل اتارنا۔ ـــ ہ: کو اپنے میں سمو لینا، جیسا ہونا، کے مانند ہونا، کے مشابہ ہونا، سے ہم آہنگ ہونا، کے مطابق ہونا، موافق ہونا۔ حِکایة جمع حِکایات: کہانی، قصہ، سرگزشت، لفظی اقتباس، قول۔ مُحَاکَاة: نقل، مشابہت، مماثلت، ہم آہنگی۔ حَاکٍ: بیان کرنے والا، قصہ گو، فونوگراف، لاؤڈ اسپیکر، ریڈیو۔ مَحْکِیّ: نقل اتارا ہوا، نقل کا، نقل کے متعلق۔

حلّ: ۱۔ حَلَّ ـُ حَلاًّ العُقْدَةَ: گرہ کھولنا۔ انحلت العقدةُ: گرہ کا کھل جانا۔ اسی سے ضرب المثل ہے: یاعاقد اذکر حلاً: جس گرہ کو تو باندھ رہا ہے اس کو کھولنے کا راستہ چھوڑ، تاکہ تیری گرہ ایسی نہ ہو کہ کھل نہ سکے۔ حُلَّ الجامدُ: جامد کا پگھلایا جانا۔ اِنْحَلَّ: کھلنا، کھل جانا۔ الحَلَّال: حال سے مبالغہ کا صیغہ، گرہ کھولنے والا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ حلّالٌ للعُقَد کافٍ للمهمات: فلاں شخص بہت عقدہ کشا اور مشکلات کے لئے کافی ہے۔ الحَلالَة: چرخہ۔ التحلیلُ الکهربائی (ف): برقی تحلیل (جیسے پانی کو برقی رو سے۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن میں لوٹانا)

۲۔ حَلَّ ـِ حِلاًّ الشیءُ: کسی چیز کا حلال ہونا، جائز ہونا۔ حَلَّلَ تَحْلِیْلًا و تَحِلَّةً و تَحِلاًّ الشیءَ: کسی چیز کو حلال قرار دینا، جائز ٹھہرانا۔ ـــہُ: کو بری کرنا، بری الزمہ قرار دینا۔ اَحَلَّ اِحْلالاً الشیءَ: کو حلال کرنا، جائز کرنا۔ تَحَلَّلَ ہُ: سے الگ ہونا، نکلنا، آزاد ہونا۔ اِسْتَحَلَّ الشیءَ: کو جائز سمجھنا، شمار کرنا یا حلال و جائز بنانا یا کرنا۔ ہُ الشیءَ: کو کوئی چیز اس کے لئے جائز کرنے کے لئے کہنا۔ الحِلّ (مص): حلال، جائز، الحال جمع حُلَّل و حُلُول و حُلَّال: (فا): حلال، جائز۔ الحَلال: حلال، جائز۔ الحِلَال: حلال، جائز، آدمی کا سامان۔ الحَلِیل: حلال، جائز۔

۳۔ حَلَّ ـُ حَلاًّ و حَلَلاً و حُلُولاً المکانَ و بالکان: کسی جگہ اترنا۔ به فی المکان: کو کسی جگہ اتارانا۔ حُلَّ المکانُ: جگہ کا آباد ہونا۔ حَلَّلَ تَحْلِیْلاً و تَحِلَّةً ہُ بالمکان: کو کسی جگہ اتارنا۔ اَحَلَّ اِحلالاً ہُ بالمکان او المکانَ: کو کسی جگہ اتارنا۔ اِحْتَلَّ المکانَ و بالمکان: کسی جگہ اترنا ٹھہرنا کہا جاتا ہے۔ اِحْتَلَّ القومَ و بالقوم: وہ قوم کے پاس ٹھہرا۔ الحِلّ: کسی جگہ اترنے والا ٹھہرنے والا۔ کہا جاتا ہے۔ مازلتُ حِلاًّ بهذا البلد: میں ابھی تک اس شہر میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ الحَلِیل جمع اَحِلّاء مونث حَلِیل و حَلِیلَة جمع حَلائِل: خاوند، بیوی۔ ایک ہی گھر میں دوسروں کے ساتھ رہنے والا۔ کہا جاتا ہے: هذا حلیلُك: یہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہنے والا ہے۔ الحِلال: عورتوں کی ایک سواری۔ الحَلَّة: حلول سے اسم مرہ۔ جمع۔ حِلَل و حِلال: مجلس، اکٹھا ہونے کی جگہ۔ محلّہ۔ الحِلَّة: اترنے کی ہیئت۔ جمع حِلَل و حِلال: بڑی تعداد میں اترنے والی قوم۔ حَیٌّ حِلالٌ: کثیر تعداد میں اترنے والا قبیلہ، مجلس، جلسہ، محلّہ۔ الحُلُول (مص) عند العلماء: دو جسموں کا اتحاد جس کی وجہ سے ایک کی طرف اشارہ، دوسرے کی طرف اشارہ ہو جیسے گلاب کے پھول میں گلاب کے پھول کا پانی۔ اسی سے ہے۔ مَذْهَبُ الحلول: اس مکتبہ فکر کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اور ہر چیز کے ہر جزء میں حلول کئے ہوئے ہے، یہاں تک کہ ہر چیز پر یہ اطلاق کرنا صحیح ہے کہ لاہوت کے ناسوت پر تفوق کی وجہ سے وہ چیز اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی خدائی اوصاف کے نسل انسانی پر تفوق کی وجہ سے ایسا ہے۔ جیسے عیسائیت میں اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ میں حلول کرنے کا اعتقاد۔ ـــ الحَیِّزِیُّ: جیسے جگہوں میں جسموں کا حلول۔ ـــ الوَصْفِیّ: جیسے جسم میں سیاہ رنگ کا حلول۔ ـــ السَّرَیانی: جیسے ہیولی میں صورت کا حلول یا نفس میں نفسیاتی امراض کی علامات کا حلول۔ ـ الجِوَارِیّ: ایک جسم کے دوسرے جسم کا ظرف ہونا جیسے پانی کا آبخورے میں حلول۔ الحُلُولِیَّة: صوفیاء کا ایک فرقہ جو ہمہ اوست یا وحدت الوجود کا قائل ہے۔ المَحَلّ جمع مَحَالّ: اترنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ المَحلّة: اترنے کی جگہ، ماء مُحَلَّلٌ: اونٹوں کے اترنے سے گدلا ہو جانے والا پانی، مکان مُحَلَّلٌ: لوگوں کے زیادہ اترنے کی جگہ۔

۴۔ حَلَّ ـِ حِلاًّ الرجلُ: احرام سے نکلنا۔ اَحَلَّ اِحلالاً: عہد و میثاق سے آزاد ہونا۔ ـ المُحْرِمُ: محرم کا احرام سے نکلنا، اشہر حرام کے علاوہ مہینوں میں داخل ہونا۔ الحِلّ (مص): مکہ معظمہ کے حرم شریف سے باہر کا علاقہ۔ اس کے مقابلہ میں لفظ الحَرم ہے۔ ـ و الحُلّ: احرام سے نکلنے کا وقت۔ کہا جاتا ہے فعله فی حله و حرمه (دونوں میں کسر و ضم ہے): اس نے اس کو احرام کی حالت میں اور احرام سے نکلنے کے وقت کیا۔ اشهرُ الحِلّ: اشہر حرم کے علاوہ مہینے۔ الحَلَال: احرام سے نکلنے والا۔ الاِحْلال رسوم حج سے فراغت، اس کا مقابل لفظ احرام ہے۔ مُحِلّ (فا)۔ حرم کی پردہ دری کرنے والا۔ رجلٌ مُحِلٌّ: بے عہد مرد۔

۵۔ حَلَّ ـِ حُلُولاً علیه امرُ اللّٰه: پر اللہ کا حکم واجب ہونا۔ ـِ حِلاًّ الدَینُ: ادائیگی قرض کا وقت آ پہنچنا۔ اَحَلَّ اِحلالاً بنفسه: سزا کا مستحق ہونا۔ ـ علیه الامرَ: پر حکم واجب کرنا۔ مَحِلُّ الدَین: قرض کی میعاد۔

۶۔ حَلَّ ـِ حِلاَّتِ الیمینُ: قسم پوری ہونا۔ حَلَّلَ تَحْلِیْلاً و تَحِلَّةً و تَحِلاًّ الیمینَ: قسم کا کفارہ ادا کرنا۔ تَحَلَّلَ من یمینه: کفارہ دے کر قسم سے آزاد ہونا۔ فی یمینه: قسم کو شرطیہ بنانا جیسے کہے۔ واللّٰه لأفعلنَّ ذلك ان شاءَ اللّٰهُ اوَاِلاّ اَنْ یکونَ کَذَا: میں ایسا کروں گا اگر اللہ نے چاہا یا یہ کہ اگر ایسا ہوا تو: الحِلّ: قسم سے بریت۔ التَحِلَّة: قسم کا کفارہ۔

۷۔ حَلَّ ـَ حَلَلاً: کے پاؤں یا ٹخنے میں ڈھیلا پن ہونا صفت۔ اَحَلّ جمع حُلّ الحَلَّة و الحِلَّة: ٹوٹ پھوٹ، کمزوری، کہا جاتا ہے۔ فیه حَلَّةٌ او حِلَّةٌ: اس

میں کمزوری ہے۔ اَلاَحَلّ مونث حَلّاء جمع حُلّ: پاؤں میں ڈھیلے پن والا۔

۸۔ اَحَلَّ إحلالاً تِ الناقة على ولدها: اونٹنی کا دودھ اس کے بچے کو میسر آنا۔ الإحْلِيل جمع أحَالِيل: تھن کا سوراخ جس سے دودھ نکلتا ہے۔ پیشاب نکلنے کی جگہ۔ التَحْلِيل: بمعنی الإحْلِيل۔

۹۔ الحِلّ: نشانہ۔ السحر الحَلَال: شیطان سے مدد کے بغیر وہ عجیب باتیں جن سے عقلیں دنگ رہ جائیں۔ اُلحُلَّة جمع حُلَل وحِلَال: نیا کپڑا، تمام جسم کو ڈھانکنے والا لباس۔ ہتھیار۔ کہا جاتا ہے: لبس المُحارِبُ حُلَّتَهُ وبِزَّتَهُ: لڑنے والے نے اپنے ہتھیار اور لباسِ زیب تن کیے۔ الحَلَّة: زگل کا بڑا ٹوکرا۔ والحِلَّة جمع حِلَل و حِلَال من الشيء: کسی شے کی طرف سمت۔

۱۰۔ حَلْحَلَ الشيءَ: کو ہلانا، ہٹانا۔ القومَ: قوم کو ان کی جگہوں سے ہٹانا، علیحدہ کرنا۔ تَحَلْحَلَ عن مکانه: اپنی جگہ سے حرکت کرنا، ہٹ جانا۔ الحُلاحِل جمع حَلَاحِل و المُحلْحَل و المُلحْلَح: اپنے قبیلہ کا سردار، پورا بہادر۔

○ حَلَّ ـُ حلاً ہ: (گرہ) کھولنا، کوئی چیز کھولنا، حل کرنا کا اثر باطل کرنا، (مسئلہ معما) حل کرنا، (رمزی تحریر) کو پڑھنا، حل کرنا کسی کیمیاوی شئے کو پانی میں تحلیل کرنا، کسی چیز کا تجزیہ کرنا، کی ترکیب نحوی کرنا، کی تحلیل کرنا، کو سڑانا، گلانا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی تنظیم یا جماعت کو توڑنا (پارلیمنٹ) کو برخاست کرنا، (پیکٹ وغیرہ) کھولنا، کو ڈھیلا کرنا۔ ہ/ہ: کو آزاد کرنا۔ ہ مـن: کو سے بری کرنا، کی سے گلو خلاصی کرنا، چھٹکارا دلانا، بری الذمہ قرار دینا، کو گناہ کی معافی دینا۔ حُلَّ: آزاد ہونا، ڈھیلا ہونا۔ ـِ حُلُولاً: اترنا، ٹھہرنا، رکنا۔ ہ/ب/فـی: کسی جگہ ٹھہرنا میں رہنے لگنا، آباد ہونا۔ علی: کے ساتھ، کے گھر ٹھہرنا، مقیم ہونا کو ملنے آنا۔ ہ: کسی جگہ یا ملک میں رہائش اختیار کرنا۔ عـلـی: کو سخت غصہ، غضب یا طیش آجانا۔ علی: نیند کا کسی پر قابو پانا یا کو گھیرے میں لے لینا۔ علی/ب۔ پر (آ) پڑنا، واقع ہونا۔ ب: کو سزا، تکلیف یا مصیبت پیش آنا، ہونا۔ فی: اللہ تعالی کا کسی میں مجسم ہوجانا، حلول کرنا۔ ـ: (وقت یا موسم کا) آنا، شروع ہونا۔ ـَ ـِ: حل ہوجانا، (رنگ کا) پھیکا پڑ جانا۔ ـَ ـِ حِلّاً: جائز ہونا، حلال ہونا، قانونی ہونا، قانون کے مطابق ہونا، (قرض کا) واجب الادا ہونا۔ حَـلَّ فـی

پر رہنا، لگا رہنا، فائز رہنا۔ مَحَلَّة: صحیح مقام پر ہونا۔ حَلَّ مَحَلَّ الشيءِ یا حَلَّ محلّ فلان: کسی چیز یا شخص کی جگہ لینا۔ کا قائم مقام ہونا یا کسی چیز یا شخص کے قائمقام کے طور پر خدمات سر انجام دینا یا کے قائم مقام کے طور پر فرائض سرانجام دینا۔ حلّت في قلبه محلاً: اس عورت کی اس مرد کے دل میں ایک جگہ تھی۔ حَلَّ محلّ التقدير لَدَيْهِ: کسی شخص کے لحاظ سے متمتع ہونا اس کے از حد احترام وتوقیر سے مستفید ہونا۔ حلّ من نفوس القراء محل الامتحان: قارئین کو پسند آنا، قارئین کی توجہ مبذول کرنا یا قارئین کو مرغوب ہونا قارئین کی پسند ہونا۔ حَـلَّـل ہ: کو حل کرنا، کا تجزیہ کرنا، کو تباہ کرنا۔ کی تحلیس کرنا، کو سڑانا، گلانا، کا کیمیاوی تجزیہ کرنا، کو حل کرنے والا ہونا تحلیل کرنے والا ہونا۔ ـ ہ: کو بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا، کی گلو خلاصی کرنا، کو چھٹکارا دلانا، معافی دلانا کو بیگناہ ظاہر کرنا ـ تَحِلَّةً: قسم کا کفارہ ادا کرنا۔ ـ ہ: کو جائز، قانونی یا قانون کے مطابق بنانا، جائز، ٹھیک بنانا، کی منظوری دینا، کا جواز پیش کرنا، کی توجیہ کرنا، کو جائز، حلال، قانونی، قانون کے مطابق قرار دینا، کی اجازت دینا۔ اَحَلّ ہ من: کو سے بری قرار دینا، چھڑانا، الگ کرنا نجات دلانا، کی سے گلوخلاصی کرنا، کو سے چھٹکارا دلانا کو سے بری الذمہ قرار دینا، کو کی معافی دینا۔ ہ: کو جائز، حلال، قانونی یا قانون کے مطابق قرار دینا، کی اجازت دینا، کو واقع کرنا، رائج کرنا، کا باعث ہونا، کو وجود میں لانا، کو مستحکم کرنا، کو قائم کرنا، کو مستقل بنیادوں پر استوار کرنا، کو مضبوط کرنا، کو استحکام عطا کرنا۔ اَحَلّ ہ ہ: کو کی جگہ دلانا، کو کی جگہ پر قابض کرنا۔ ہ ہ: کو (خصوصاً قبیلہ کو) کسی جگہ منتقل کرنا۔ ـــ ہ بین: بین کا کے درمیان فیصلہ کرنا یا کو کے درمیان نمٹانا۔ اَحَلَّهُ مَحَلَّةً: کو کی جگہ دلانا، کو کی جگہ رکھنا، کو کا قائم مقام بنانا کو کے بدل لینا۔ احلّ الشيء محل العناية: پر توجہ دینا، کو اپنا معاملہ بنانا۔ تَحَلَّلَ: حل ہونا، پگھلنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ من: خود کو سے الگ کرنا، علیحدہ کرنا نکالنا، چھٹکارا دلانا۔ اِنْحَلّ: (گرہ کا) کھلنا، (مسئلہ کا) حل ہونا (کسی تنظیم، جماعت وغیرہ کا) ٹوٹ جانا، حل ہونا، پگھلنا، کمزور یا ڈھیلا ہونا، سست ہونا، لنگڑانا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہوجانا۔ اِحْتَـلّ ہ: کسی جگہ بسنے لگنا، آباد ہونا، (فوج کا) کی علاقہ پر قبضہ کرلینا

سنبھالنا، پر قابض ہونا، کسی عہدہ وغیرہ پر ہونا۔ اِحْتَلّ المكانَ الأوّلَ: اہم یا اول مقام جگہ پر قابض ہونا۔ اِحْتَلَّ أعْمَالَهُ: کے فرائض منصبی سنبھالنا۔ اِسْتَحَلَّ ہ: کو جائز، حلال یا قانونی یا قانون کے مطابق سمجھنا، سمجھنا کہ وہ کچھ کرسکتا ہے۔ ـ ہ: کو جائز کھیل یا چال سمجھنا کو آسان شکار سمجھنا، پر ناجائز طور پر قبضہ کرنا، میں خرد برد کرنا، کو غصب کرنا۔ حَلّ جمع حُلُول: کھولنا، ڈھیلا کرنا۔ (گرہ) کھولنا، (مسئلہ معما وغیرہ کا) حل، کی توضیح، پہیلی بوجھنا، (راز) پانا، دریافت کرنا۔ (کیمیاوی) حل تحلیل، تجزیہ (تنظیم وغیرہ کو) توڑنا، برخاست کرنا، تنسیخ، منسوخی، آزاد کرنا، چھوڑنا، روکی ہوئی رقم واگزاشت کرنا، ـ سے پابندی ہٹالینا، ختم کرنا، بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا، بریت، مغفرت، اعلان نجات، خلاصی، معافی۔ قَابِلٌ لِلْحَلّ: حل پذیر، حل ہونے یا کرنے کے قابل، قابل تجزیہ۔ الحَلّ الطيفي: تحلیل طیفی۔ اهل الحَلّ والعقد یا اهل الحَلّ و الربط: با اثر لوگ، برسر اقتدار لوگ۔ في حلّهِ و ترحالِه: اپنے تمام اعمال میں، اپنے ہر کیے ہوئے کام میں۔ حِلّ: كان في حِلٍّ مِـن (عـن): وہ کو کرنے میں آزاد تھا، وہ کسی کام کا انتظام کرنے یا اسے ٹھکانے لگانے میں آزاد تھا۔ انتَ في حِلٍّ مِن: آپ ...... میں آزاد ہیں، کو آپ بخوشی کرسکتے ہیں۔ حَلَّة جمع حِلَل: تانبے کا نچلا برتن، پکانے کا برتن۔ حِلَّة: راستے کا پڑاؤ، رکنے کی جگہ، سٹاپ، راستے میں مختصر قیام، پڑاؤ، رہائی، خلاصی، چھٹکارا، مغفرت، نجات، مکتی، اعلان نجات (مسیحیت میں) کسی مذہبی فریضہ سے استثناء (مسیحیت میں) حُلَّة جمع حُلَل: لباس پوشاک، جامہ، خلعت، قربان گاہ کی چادر، کپڑوں کا جوڑا۔ مغربی سوٹ، حُلّة رسمية: یونیفارم، وردی، حُلّة السَهْرة: رسمی لباس۔ حَلَال: جسکی اجازت ہو، جائز، روا، مباح، قابل منظوری، حلال، قابل قبول، قابل تسلیم، قانونی، قانون کی نظر میں، قانون کے مطابق، قانوناً اور شرعاً جائز، مناسب یا واجب، شرعی، باضابطہ، صحیح المنصب، جائز عقد سے۔ قانونی قبضہ۔ ابن حلال: جائز بیٹا، قانونی عقد کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا بیٹا، قابل احترام آدمی، آبرو دار اور شائستہ شخص۔ حُلُـول: ٹھہرنا، قیام کرنا آنا، اترنا، پڑنا، ناگہانی مصیبت آنا، مجسم، زندہ نمونہ، مظہر، انسانی شکل، تجسیم، (وقت وغیرہ کا) شروع، بعثت، ابتداء، آغاز، کسی کی قائم مقامی، کسی کی جگہ لینا۔ حَليل جمع اِحِلّاء

خاوند، شوہر۔ حَلِيلَة جمع حَلَائِل: بیوی۔ إِحْلِيل: مثانہ سے پیشاب کے اخراج کی نالی، پیشاب کی نالی کا بیرونی سوراخ۔ مَحَلّ جمع مَحَلَّات و مَحَالّ: جگہ، قرار داد مقام، معیّنہ مقام، موقع، موقع محل جائے وقوع، علاقہ، مرکز، رہائش (کی جگہ) کاروبار، تجارت محل تجارت، سٹور، دکان، جھگڑے، تحسین وغیرہ کا مقصد، غرض، سبب، وجہ، علت، گاڑی کا گئر (Gear) مَحَلَّه: کی جگہ، فی مَحَلِّه: کی جگہ، کے بجائے کی بجائے، کے بدلے۔ کان فی محله: صحیح جگہ ہونا، مناسب، موزوں، برجستہ یا برمحل ہونا، ضروری ہونا، قرین مصلحت ہونا، قابل توجیہ ہونا، حق بجانب ہونا، روا ہونا۔ فی غیر محلّه: نامناسب ہونا، بے موقع ہونا، بے جا ہونا، خلاف مصلحت ہونا، بے وقت ہونا۔ غیر موزوں ہونا، بے ٹھکانا ہونا، ناموزوں ہونا، بے محل ہونا۔ صادفَ مَحَلَّهُ: آسان، مفید، موزون، معقول یا آرام دہ ہونا، انتہائی بروقت، برمحل، موزوں، مناسب، درست یا ٹھیک ہونا۔ لامَحَلَّ لَهُ: کے لئے کوئی جگہ یا گنجائش نہیں ہے، یہ بے محل، بے موقع ہے۔ مَحِلّ العمل: کام کی جگہ مدد، خدمت کی جگہ۔ محل الإقامة: رہائش گاہ، پتہ: محل تجاری: ایوان تجارت، دکان المحلات العمومية و التجارية: عوامی یا شہری خدمات اور تجارتی ایوان۔ اسم المحل: فرم۔ محل الرهونات: چیزیں رکھ کر روپیہ سود پر دینے والی دکان، محلّ السياحة: ٹریول ایجنسیاں۔ محلّ مُرَطِّبات: کھانے پینے کی ہلکی چیزوں کی دکان جیسے چائے خانے۔ محل اللهو اور محلّ الملاهي جمع مَحَالّ، دل بہلانے، کھیلوں یا تفریح کا مرکز۔ محل نِزاع: بحث کی چیز متنازع فیہ معاملہ، لا أرى محلاً لِعَجَب: میں حیرت کی کوئی وجہ نہیں دیکھتا، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ محلّ نظرٍ: قابل توجہ چیز، جاذب توجہ غیر معمولی چیز، مَحَلِّي: مقامی، لوکل، دیسی، ملکی، محدود حلقے کا۔ مَحَلِّيات: مقامی خبریں کسی اخبار کا مقامی صفحہ۔ مَحِلّ: ادائیگی یا تقسیم کی تاریخ۔ مَحَلَّة جمع مَحَلَّات: راستہ کا پڑاؤ، ٹھہرنے کی جگہ، سٹاپ، راستہ میں مختصر قیام، پڑاؤ، کیمپ، سٹیشن، حصہ، شہر کا محلہ، المحلة الكبرى: شمال مصر کے ایک شہر کا نام۔ تَحْلِيل: حل کرنا، تحلیل، تجزیہ، کسی مرکب سے اجزاء کی علیحدگی، تفصیل، صفات کی تخصیص، تشریح، خلاصہ بیان کرنا، جملہ کی ترکیب کرنا، جمع۔ تَحَالِيل: تحلیل، تجزیہ (کیمیائی)، (مسیحیت میں) رہائی، خلاصی، چھٹکارا، مغفرت، نجات، مکتی، اعلان نجات۔ بالتحليل: تفصیل سے۔ مَعْمَل تحليل: کیمیائی تجزیہ گاہ۔ تحليل كَهْرَبائي: برق پاشیدگی، برق پاشی۔ التحليل النفسي (النفساني): تحلیل نفسیات، نفسیاتی تحلیل۔ تَحْلِيلِيّ: تجزیاتی، تحلیلی۔ تَحَلُّل: تجزیہ، تحلیل، منسوخ ہونا، ٹوٹنا تباہ ہونا، جلسے وغیرہ کا ختم ہونا۔ اختتام پذیر ہونا جدائی، علیحدگی، فراق، ہجر، رہائی، خلاصی، دور رہنا۔ اِنْحِلال: نکاح کا فسخ ہونا مجلس قانون کے اجلاس کا اختتام، خاتمہ، زوال، تباہی، گلنا، سڑنا، انتشار، بوسیدگی، تنزل، سڑاند، سستی، سخت تھکاوٹ، کمزوری، نامردی۔ احتلال: قبضہ۔ جُيُوش الاحتلال: قابض فوجیں۔ احْتِلالِي: قابض، قبضہ کرنے والا، غیر ملکی قبضہ کا حامی۔ مَحْلُول: حل کیا ہوا، جدا کیا ہوا، چھوٹے ٹکڑوں میں علیحدہ کیا ہوا، ڈھیلا، کھلا نہ بندھا ہوا، آزاد، قید سے رہا۔ کمزور کیا ہوا، تھکا ماندہ، نڈھال، حل۔ مَحْلُولُ الشعر: ڈھیلے بالوں والا، پریشان، بکھرے یا الجھے ہوئے بالوں والا۔ مُحَلِّل: تجزیہ نگار، تجزیہ کرنے والا، تحلیل کرنے والا۔ مُنْحَلّ: حل شدہ، حل کیا ہوا، علیحدہ کیا ہوا، کئی ٹکڑوں میں کیا ہوا، توڑا ہوا، برخاست کیا ہوا، نڈھال، تھکا ماندہ، کمزور، جائز قرار دیا ہوا، اجازت دیا ہوا۔ جُيُوش مُحْتَلَّة: قابض افواج۔

حلا: ۱۔ حَلَا - حَلَاهُ بالسيف: کو تلوار سے مارنا۔ هُ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔ به الارضَ: کو پچھاڑنا، زمین پر پٹخنا۔

۲۔ حَلَّأَ - حَلَّأَ تَحْلِيئاً و تَحْلِئَةً الشيءَ: کو کوئی چیز دینا۔

۳۔ حَلَأَ - حَلَأَ الجلدَ: جلد کھرچنا، چھیلنا۔ الْحَلُوء و الحُلَاءَة: چمڑے کی جھلی جو رنگنے والا اتارتا ہے۔ المِحْلَأ و المِحْلَأَة: چمڑا صاف کرنے کی چھری۔

۴۔ حَلَأَ - حَلَأَهُ: کو سرمہ لگانا۔ له حَلُوءاً: کے لئے سرمہ یا انجن رگڑنا، گھسنا۔ أَحْلَأَهُ: کو سرمہ لگانا۔ الحَلُوء و الحُلَاءَة: سرمہ۔ الحالِئة: بڑا زہریلا سانپ۔

۵۔ حَلِئَ - حَلَأً: کی کھال پر بال ہونا یا بالوں کی سیاہی ہونا۔ الحَلَأ او التِحِلّيء او التِحلِئة: چمڑے پر کے بال، چمڑے کا میل اور اس کی سیاہی۔

۶۔ حَلِئَ - ب الشيءِ: کے ہونٹ آبلے (چھالے) پڑ جانا الحَلَأ: آبلے، چھالے۔

۷۔ حَلَّأَ تَحْلِيئاً و تَحْلِئَةً هُ عن الماء: کو پانی پر اترنے سے روک دینا۔ التِحْلِئَة: بوجھل، بھاری۔ کہا جاتا ہے۔ رجلٌ تِحْلِئَةٌ: بوجھل آدمی، ناقابل برداشت آدمی۔

حلب: ۱۔ حَلَبَ ـُ حَلْباً وَحَلَباً و حِلَاباً الشاةَ: بکری کو دوہنا۔ کہا جاتا ہے: حَلَبَ الدهرَ أَشْطُرَهُ: اس نے زمانے کی بھلی بری باتوں کو خوب آزما لیا۔ اشطر اونٹنی کے تھن کے بانکو کو کہتے ہیں۔ حَلَبْتَ بالساعد الأشد: تم نے ایسے شخص سے مدد لی جو تیرے کام کو بخوبی سر انجام دے سکتا ہے۔ ـ وأَحْلَبتُ الرجلَ: میں نے اس مرد کے لئے دودھ دوہا۔ ـ تُهُ ناقتي: میں نے اپنی اونٹنی، اسے دوہنے کے لئے دی۔ حَالَبَ هُ: کے ساتھ مل کر دودھ دوہنا۔ اِحْتَلَبَ الناقةَ: اونٹنی کو دوہنا، اونٹنی کا دودھ دوہنا۔ واِسْتَحْلَبَ: دودھ کر دودھ نکالنا۔ الحَلَب (مص): کہا جاتا ہے: ماله حَلَبٌ ولا جَلَبٌ: اس کے پاس نہ تو اونٹنیاں ہیں اور نہ ہی اونٹ۔ ـ و الحليب: دوہا ہوا دودھ۔ کہا جاتا ہے۔ شربتُ حَلَبًا: میں نے تازہ دودھ پیا۔ دمٌ حليبٌ: تازہ خون۔ (شراب التمر): کھجور کی شراب۔ الحَلَبِيّ: دودھ دینے والی کہا جاتا ہے۔ ناقةٌ حَلَبِيٌّ رَكَبِيٌّ او حَلَبانَةٌ رَكَبانَةٌ: دودھ دینے والی اور سواری دینے والی اونٹنی۔ الحَلْبَة جمع حَلَبات و حَلَائِب: ایک دفعہ کا دوہنا۔ الحَلَبَتان: صبح و شام (ان دو وقتوں میں دودھ دوہنے کی وجہ سے یہ نام پڑا)۔ الحالِب جمع حَلَبَة (فا): دودھ دوہنے والا۔ الحَوالِب واحد حالِبَة: تھن کے ارد گرد کی رگیں۔ الحِلاب: دودھ دوہنے کا برتن۔ الحَلّاب: بہت دودھ دوہنے والا۔ الحُلَّب: (ن) نبات کی ایک قسم جو زمین پر پھیل جاتی ہے اور اگر کا کوئی حصہ کاٹا جائے تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے۔ الحَلُوب و الحَلُوبَة جمع حُلُب و حَلَائِب من الابل و الغنم: دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری۔ دوہا جانے والا جانور دوہی ہوئی۔ التِحلابَة و التُحْلُبَة و التَحْلَبَة و التَحْلِبَة و التُحْلِبَة و التِحْلَبَة من الغنم: گیا بھن ہونے سے پہلے دودھ دینے والی بکری۔ المِحْلَب جمع مَحَالِب: دودھ دوہنے کا برتن۔ المَحْلَب جمع مَحَالِب: دودھ دینے کی جگہ۔ المُحْلِب: وہ شخص جس کی اونٹنیاں اونٹنیاں جنیں کہا جاتا ہے۔ فلانٌ مُحْلِبٌ مُجْلِبٌ: فلاں شخص کی اونٹنیوں نے اونٹنیاں

جنیں اور وہ اونٹنیوں کا دودھ دوہتا ہے، اور اونٹوں کو بیچنے کے لئے لیجاتا ہے۔

۲۔تَحَلَّبَ و اِنْحَلَبَ العَرَقُ او الدمعُ او الماءُ او النّدیٰ: پسینہ، آنسو پانی یا اوس کا بہنا۔۔تْ عینُہ: کی آنکھ کا آنسو بہانا۔ ۔فَمُہُ: کے منہ کا رال ٹپکانا، تھوک نکالنا۔حَلَبُ الکَرْمِ و حلب العصیر: شراب۔کہاجاتا ہے۔ذاقوا حَلَبَ امرِھم: انہوں نے اپنے کام کا خمیازہ بھگتا۔حَوَالِبُ البِئْرِ او العَیْنِ: کنویں یا آنکھ کے پانی کے سوتے۔حَوَالِبُ الانفِ: ناک کی وہ رگیں جس سے ریزش نکلتی ہے۔المَحْلَاب من الایام: نمناک دن، وہ دن جس میں اوس (شبنم) پڑے۔

۳۔حَلَبَ ـُ حَلْبًا و حَلَبًا و حِلَابًا الرجلُ: زانو کے بل بیٹھنا۔

۴۔حَلَبَ ـُ حَلْبًا و حُلُوبًا القومُ: مدد کے لئے قوم کا ہرطرف سے سمٹ آنا۔حَالَبَ ہٗ: کو مدد دینا۔اَحْلَبَ القومُ: مدد کے لئے قوم کا ہرطرف سے سمٹ آنا۔۔ہ: کو مدد دینا۔اِسْتَحْلَبَ القومُ: مدد کے لئے لوگوں کا اکٹھا ہونا۔الحَلَائِب: جماعتیں، کسی کے معاون و مددگار خصوصاً چچیرے بھائی۔المُحْلِب (فا): کسی کا مددگار جو اس کی قوم کا نہ ہو۔

۵۔حَلِبَ ـُ حَلَبًا الشعرُ: بالوں کا سیاہ ہونا۔الحُلْبُوب: کالا رنگ۔کہاجاتا ہے۔اَسْوَدُ حُلْبُوبٌ: بہت کالا۔

۶۔الحَلْبَة جمع حَلَبَات و حَلَائِب: گھوڑوں کی ایک دفعہ کی دوڑ۔دوڑ میں حصہ لینے والے گھوڑے کہاجاتا ہے۔ھو یرکض فی کلِّ حَلْبَةٍ من حَلَبَاتِ المجد: وہ بزرگی و شرافت کی ہر دوڑ میں دوڑتا ہے۔الحُلْبَة جمع حُلَب (ن): میتھی۔الحُلْبَة: ریوڑ سے الگ ہوجانے والا بکریوں کا ایک حصہ۔الحَالِبَان (ع ا): دو رگیں جن سے پیشاب گردوں سے مثانہ میں آتا ہے۔المَحْلَب (ن): ایک درخت جس کے بیج سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے۔الحُلْبُوب (ن): ایک قسم کی نبات جس کے پتے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور آباد جگہوں پر بکثرت ہوتا ہے۔الحُلْبَان و الحِلْبَاب و الحُلْبُوب (ن) نباتات کے نام۔

○ حَلَبَ ـِ حَلْبًا ہٗ: کسی جانور کا دودھ دوہنا۔حَلَبَ الدھرَ اَشْطُرَہٗ: اس نے اچھے اور برے دن دیکھے ہوئے ہیں۔تَحَلَّبَ: رسنا، ٹپکنا، بہنا، پھوٹ نکلنا، قطرہ قطرہ ہو کر گرنا، قطرے ٹپکنا، چلنا، منہ میں پانی آنا، رال ٹپکنا۔تَحَلَّبَ لہ الافواہ: رال نکالنے والی، منہ میں پانی لانے والی، اشتہاء پیدا کرنے والی، اشتہاء انگیز، بھوک بڑھانے والی (کھانے کی چیز) تحلب اللعابُ فی فمی: میرے منہ میں پانی آرہا تھا۔اِحْتَلَبَ ہٗ: (دودھ دینے والے جانور) کو دوہنا۔اِسْتَحْلَبَ ہٗ: (دودھ دینے والے جانور) کو دوہنا، سے رس نکالنا۔حَلْب: دودھ دوہنا۔حَلَب: دودھ۔حَلْبَة جمع حَلَبَات: دوڑ کا راستہ، اکھاڑہ، دنگل، میدان، رقص کا فرش، دوڑنے والے گھوڑے۔حلبةُ الرقص: رقص کا فرش۔انہ لیس من تلک الحلبة: وہ اس کے لئے پیدا نہیں ہوا، اس کا اس سے تعلق نہیں، یہ اس کی سمت نہیں ہے۔فارسُ حَلْبَةِ ب: کا ماہر، میں نمایاں، سبقت لیجانے والا۔حُلْبَة: میتھی، زچہ کی مقوی دوا۔حَلِیب: دودھ۔لبن حلیب: گائے کا دودھ۔حَلُوب: دودھ دینے والا (جانور)، دودھ یا دودھ کا عرق پیدا کرنے والا۔بقرة حلوب: دودھ دینے والی گائے۔المَاشِيَةُ الحَلُوب: دودھ دینے والے مویشی۔دودھ کے کارخانے کی گائیں۔حَلَّاب: دودھ دوہنے والا۔حَلَّابَة: دودھ دوہنے والی دودھ دینے والی گائے۔حالب: گردوں سے مثانہ میں پیشاب لانے والی نالی۔مُسْتَحْلَب: دودھ کے رنگ کی روغنی دوا روغن آب، تیل اور پانی کا شیرہ۔مُسْتَحْلَبُ اللوز: بادام کا دودھ۔حَلَب: الپو Aleppo (شہر کا نام)۔

حلت: ا۔حَلَتَ ـِ حَلْتًا الرأسَ: سر مونڈنا۔الصوفَ: چمڑے سے اون اکھیڑنا۔الحُلَاتَة: اون اکھڑنے پر اس کا گرا ہوا حصہ۔الاَحْلَت: اکھڑے ہوئے بالوں یا اون والا۔

۲۔حَلَتَ ـِ حَلْتًا الدَّیْنَ: قرض ادا کرنا۔

۳۔حَلَتَ ـِ حَلْتًا ظھرَ الخَیل: گھوڑے کی پیٹھ سے چمٹ کر رہنا۔

۴۔حَلَتَ ـِ حَلْتًاہُ بسلحه: پاخانہ کرنا۔

۵۔الحَلِیت: ہنگ، اولا، پالا۔

حلج: ا۔حَلَجَ ـُ حَلْجًا فی المشی: آہستہ آہستہ چلنا۔فی العَدْوِ: دوڑنے میں لمبے لمبے قدم رکھنا۔ ۔القومُ لیلتھم: قوم کا رات کو چلنا۔کہاجاتا ہے۔بات القومُ یحلجون لیلتھم: قوم رات بھر چلتی رہی۔الحَلْجة و الحَلَجة: مسافت۔

۲۔حَلَجَ ـُ حَلْجًا القطنَ: روئی دھن کر اس میں سے بنولے نکالنا صفت حَلَّاج صفت مفعولی: حلیج و محلوج۔الرجلَ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔اِحْتَلَجَ حقہ: کا حق لے لینا۔الحِلَاجَة: دھننے کا پیشہ۔المِحْلَج جمع مَحَالِج و مَحَالِيج: روئی دھننے کا آلہ، وہ چیز جس پر روئی دھنی جاتی ہے۔المِحْلَاج جمع مَحَالِج و مَحَالِيج: روئی دھننے کا آلہ، بیلن۔المِحْلَجَة: وہ چیز جس پر روئی دھنی جاتی ہے۔

۳۔حَلَجَ ـُ حَلْجًا الخُبْزَة: روٹی کو بیلن سے گول کرنا۔الحُلَج: بہت کھانے والا۔المِحْلَاج جمع مَحَالِج و مَحَالِيج: بیلن (روٹی بیلنے کا)۔

۴۔حَلَجَ ـُ حَلْجًا الحبلَ: رسی بٹنا۔

۵۔تَحَلَّجَ فی صدره: بات کا کھٹکنا۔

۶۔تَحَلَّجَ الحَلُوج: بادل کا چمکنا۔الحَلُوج: چمکنے والا بادل۔المِحْلَج: چرخی کا محور۔

○ حَلَجَ ـُ حَلْجًا و حَلِيجًا ہٗ: (روئی) کو دھننا۔حلج روئی کو دھننا۔حَلِيج: (روئی کو) دھننا، دھنی ہوئی (روئی) حِلَاجَة: دھننے کا کام یا پیشہ۔حَلَّاج: روئی دھننے والا۔مِحْلَج و مِحْلَجَة جمع مَحَالِج: کپاس اوٹنے کی مشین، بیلن۔مَحْلَج جمع مَحَالِج: روئی دھننے کا کارخانہ۔

حلز: حَلَزَ ـُ حَلْزًا الجلدَ او العودَ: چمڑے یا لکڑی کو چھیلنا۔تَحَلَّزَ القلبُ: دل کا دردمند ہونا۔ ۔ الشیءُ: باقی رہنا۔بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔للامر: کسی امر کے لئے تیار ہونا۔اِحْتَلَزَ منہ حَقَّہٗ: سے اپنا حق لینا۔الحِلِّز: بخیل، کنجوس، بدخلق، پستہ قد (ح) الّو۔واحد حِلِّزة (ز): ایک قسم کا غلہ۔الحَلَزُون (ح): گھونگا۔الحَلَزُونة (فی عرف الحدادین و النجارین) مخروطی چکر۔لوہاروں اور بڑھیوں کی اصطلاح میں وہ سوراخ، جس میں پیچدار کیل گھومتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے اور الٹی پھیرنے کے بغیر نہیں نکلتی۔الحَلَزُونی۔ وہ شکل یا خط جو گھونگے کی ہیئت کا پیچدار ہو۔

○ حلزون و حلزونه: گھونگا، مخروطی چکر۔حلزونی: پیچ دار، چکر دار، کمانی دار، گھومتا ہوا، مرغولہ دار۔

حلس: ا۔حَلَسَ ـِ حَلْسًا البعیرَ: اونٹ کو ٹاٹ یا کمبل سے ڈھانپنا۔حَالَسَ البعیرَ: اونٹ کو ٹاٹ یا کمبل اوڑھانا۔اَحْلَسَتِ الارضُ: زمین کا سرسبز ہونا، زمین کی نباتات کا برابر اور ہموار ہونا۔ ۔اِسْتَحْلَسَتِ الارضُ: زمین کا سرسبز ہونا، زمین کی نباتات برابر و ہموار ہونا۔النبتُ: نباتات کا زمین کو ڈھانپ لینا۔اللیلُ: رات کا بہت تیرہ و تاریک ہونا۔الحِلْس و الحَلَس جمع اَحْلَاس و حُلُوس و حِلَسَة: ہر وہ کپڑا جو زین یا پالان کے نیچے ڈالا جاتا ہے۔ہر وہ کپڑا جو قیمتی کپڑوں اور سامان

کے نیچے بچھایا جاتا ہے۔ٹاٹ، کمبل۔المُحْلِسۃ من الارض: زمین جس کو گھنے سبزہ نے ٹاٹ کی طرح ڈھانپ رکھا ہو۔

۲۔حَلَسَ ـِ حَلَسَاتِ السماءُ: آسمان کا لگاتار ہلکی بارش برسانا۔اَحْلَسَ ت السماءُ: آسمان کا لگاتار ہلکی بارش برسانا۔

۳۔حَلَسَ ـِ حَلْساً الرجلُ بالشیء: کسی چیز کا بہت حریص ہونا۔حَلِسَ ـَ حَلَسًا و تَحَلَّسَ بالمکان: کسی جگہ جم کر رہنا۔اَحْلَسَ ہُ الخوفُ: کو ڈرائے رکھنا۔حَالَسَ ہُ: کو چمٹ جانا، لگ جانا، لازم ہونا۔اِسْتَحْلَسَ الخوفُ فلاناً: کو ڈر لگا رہنا۔الحِلْس: اپنی جگہ سے نہ ٹلنے والا۔(کہا جاتا ہے۔فلانٌ حِلْسُ بیتہ: فلاں شخص اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔عربوں کے نزدیک یہ ایک مذمت ہے، کہ وہ صرف گھر میں پڑا رہنے ہی کا لائق ہے۔ھو حِلْسٌ من احلاس البلاد: وہ ملک کی محبت کی وجہ سے اسے چھوڑتا نہیں۔یہ مدح ہے یعنی وہ صاحب عزت و قوت ہے)۔سردار، بہادر۔اَحْلاسُ الخیل: وہ لوگ جو گھوڑوں پر ہی سوار رہیں۔کونوا احلاسَ بیوتکم: تم اپنے گھروں میں ہی رہو۔ھذا لیس من احلاس فلان: یہ فلاں کا کفو نہیں ہے۔رفضتُ کذا ونقضتُ احلاسَہُ: میں نے اسے ترک کر دیا۔الحَلِس: بہادر جو اپنے ساتھی کے ساتھ رہے۔حریص جو اپنی جگہ سے نہ ٹلے۔الحَلُوس: نہ ٹلنے والا لالچی۔

۴۔حَلِسَ ـَ حَلَسًا و تَحَلَّسَ لِلامر: کسی کام کے لئے چکر لگانا کہا جاتا ہے۔ما تَحَلَّسَ منہ بشیء وما تَحَلَّسَ شیئاً: اس کو اس میں سے کچھ نہیں ملا۔

۵۔اَحْلَسَ ہُ: سے عہد و میثاق کرنا، کو عہد دینا۔الحِلْس: عہد و میثاق۔الحِلْس: عہد و میثاق، جوئے کا چوتھا تیر۔

۶۔اَحْلَسَ الرجلُ: مفلس ہونا۔

۷۔اَحْلَسَ فلاناً بالبیع: کو خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا۔

۸۔اِحْلَسَّ: سیاہی مائل سرخ ہونا۔صفت: اَحْلَس مونث: حَلْسَاء۔الحَلِس: سیاہی مائل سرخ رنگ۔اُمّ حِلْس: گدھی۔

○ حَلَسَ ـُ حَلَسًا: کسی جگہ مستقل طور پر رہنا، ٹھہرنا، کسی جگہ سے وفاداری کرنا۔حِلْس جمع اَحْلاس: کا عادی، خوگر، کی لت پڑا ہوا، پر جما رہنے والا، سے وابستہ رہنے والا۔احلاسُ اللھو: لذت، سرود، کھیل تفریح کے عادی، امیر لوگ جو مزے لینے میں وقت صرف کرتے ہیں۔حِلْس جمع اَحْلاس و حُلُوس: زین کا کمبل۔اَحْلَس مونث حَلْسَاء: سرخی مائل بھورے رنگ کا (گھوڑا)۔

حلط: ۱۔حَلَطَ ـُ حَلْطًا: قسم کھانا۔اَحْلَطَ الرجلُ: قسم کھانا۔فی الیمین: سرگرمی سے قسم کھانا۔اِحْتَلَطَ الرجلُ: قسم کھانا۔

۲۔حَلَطَ ـُ حَلْطًا: غضبناک ہونا۔فی الامر: میں اصرار کرنا، جلدی کرنا۔حَلِطَ ـَ حَلَطاً علیہ: پر غضبناک ہونا۔اَحْلَطَ الرجلُ: قسم کھانا۔ــ ہُ: کو غضبناک کرنا۔اِحْتَلَطَ الرجلُ: قسم کھانا۔علیہ: پر غضبناک ہونا۔

۳۔حَلِطَ ـَ حَلَطًا منہ: کسی سے تنگ ہونا، زچ ہونا، تھک جانا۔

۴۔اَحْلَطَ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔

حلف: ۱۔حَلَفَ ـِ حَلْفاً و حِلْفًا و حَلِفًا و مَحْلُوفًا و مَحْلُوفَۃً و مَحْلُوفَاءَ باللّٰہ: اللہ کی قسم کھانا۔حَلَّفَ و اَحْلَفَ واِسْتَحْلَفَ ہُ: کو قسم دینا۔حَالَفَ مُحَالَفَۃً ہ: سے معاہدہ کرنا، عہد و پیمان کرنا۔تَحَالَفُوا، باہم عہد و پیمان کرنا۔الحَلْف والحَلِف والاُحْلُوفَۃ: قسم۔الحِلْف جمع اَحْلَاف: وہ دوست جو اپنے دوست سے بیوفائی نہ کرنے کی قسم کھائے۔عہد و پیمان، دوستی۔الحَلَّافُ والحَلَّافَۃ: بہت قسمیں کھانے والا۔ضرب المثل ہے۔کلّ حَلَّافٍ کَذَّاب: ہر شخص جو بہت قسمیں کھاتا ہو جھوٹا اور فریبی ہوتا ہے۔المُحْلِف: مشکوک بات کو ثابت کرنے کے لئے قسم کھانا، کہا جاتا ہے۔ھذا غلامٌ مُحْلِفٌ: یہ ایسا لڑکا ہے جس کے احتلاف میں شک ہے۔الحَلِیف جمع حُلَفاء: عہد و پیمان کرنے والا۔الدَّولۃ الحلیفۃ: دوست ملک۔

۲۔حَالَفَ مُحَالَفَۃً فلاناً حُزْنُہُ: غم لگا رہنے والا ہونا۔الحِلْف: ساتھ لگا رہنے اور جدا نہ ہونے والا۔کہا جاتا ہے۔فلانٌ حِلْفُ کذا: فلاں شخص اس سے جدا نہیں ہوتا۔الحَلِیف جمع حُلَفاء: کسی چیز کے ساتھ رہنے اور اس جدا نہ ہونے والی چیز۔کہا جاتا ہے: فلانٌ حلیفُ الجودِ: فلاں شخص ہمیشہ فیاضی کرنے والا ہے۔فلانٌ حلیفُ اللسان: فلاں شخص چرب زبان اور فصیح ہے۔

۳۔الحَلْفَاء جمع حُلَّف و حُلُف: بہت چیخنے والی لونڈی۔واحد حَلَفَۃ و حَلْفَاۃ (ن): ایک قسم کی بوٹی جس کے اطراف کھجور کی شاخ کے مانند تیز ہوتے ہیں، پانی کے بہاؤ کی جگہ اگتی ہے۔اس کے پتوں سے ٹوکریاں، چٹائیاں، رسیاں اور کاغذ بنائے جاتے ہیں، مصر اور الجزائر میں اگائی جاتی ہے۔المُحْلافیّ: وہ جگہ جہاں حلفاء بوٹی اگتی ہے یا بکثرت پائی جاتی ہے۔المَحْلَفۃ و المُحْلِفۃ من الاراضی: زمین جس میں حلفاء بوئی کی کثرت ہو۔

○ حَلَفَ ـِ حَلْفًا وحِلْفًا یمیناً: قسم اٹھانا۔حَلَّفَ ہ: کو قسم کھلانا، کو عہدے پر فائز ہوتے وقت حلف دینا، سے التجا کرنا۔حَالَفَ ہ: کے ساتھ متحدہ ریاستوں میں داخل ہونا، کے ساتھ معاہدہ کرنا، کا حلیف ہونا۔تَحَالَفَ علی: پر باہم عہد و پیمان کرنا، اتحاد میں شامل ہونا۔ــ مع: کا اتحادی ہونا۔اِسْتَحْلَفَ ہ: کو قسم کھلانا، سے قسم لینا، سے التجا کرنا۔حَلْف وحِلف: قسم، حلف۔حلف الیمین: قسم لینا۔حِلف: قسمیہ یا حلفیہ اتحاد، فیڈریشن ممالک منسلکہ، نیم وفاقی ریاستیں، اتحاد، متحدہ جماعت۔حِلف عسکری: فوجی اتحاد۔الحلف الأطْلَنطِی: معاہدہ اوقیانوس۔حَلِیف جمع حُلَفاء: شریک، حلیف، دوست، ساتھی، متحد، اتحادی۔الحُلَفاء: اتحادی (جماعتیں، ملک)۔حَلِیفَۃ جمع حلیفات: حلیف کا مونث۔حَلُّوف جمع حَلالِیف: جنگلی سور، خنزیر۔تَحْلِیف: قسم کھلانا، حلف لینا۔لَجْنَۃُ التحلیف: جیوری۔مُحَالَفَۃ: اتحاد، تَحَالف: اتحاد کی حالت، اتحاد، اتحاد کا معاہدہ۔مُحَلَّف: جس کو قسم کھلائی گئی ہو، جس سے حلف لیا گیا ہو، قسم کا پابند جمع۔مُحَلَّفُون: جیوری کارکن۔مُتَحالِف: باہم متحدہ، اتحادی۔

حلق: ۱۔حَلَقَ ـِ حَلْقًا و تَحْلاقًا الراسَ: سر مونڈنا۔حَلَّقَ الراسَ: سر مونڈنا۔اِحْتَلَقَ الراسَ: سر مونڈنا۔الحِلْق: بہت مویشی۔الحَلِق: بے بالوں والا۔الحَلَّاق: نائی، حجام۔الحُلَاقَۃ: مونڈے ہوئے بال۔الحِلَاقَۃ: نائی کا پیشہ۔الحَلِیق جمع حَلْقَی: مونڈا ہوا۔کہا جاتا ہے۔شعر حلیق: مونڈے ہوئے بال۔لحیۃٌ حَلِیق: منڈی ہوئی داڑھی۔المِحْلَق: استرہ۔

۲۔حَلَقَ ـُ حَلْقًا الشیءَ: چیز کو چھیلنا۔

۳۔حَلَقَ ـُ حَلْقًا الرجلَ: کے حلق پر مارنا۔حَلِقَ ـَ حَلَقًا: کے گلے میں شکایت ہونا۔الحَلْق (مص) جمع اَحْلاق و حُلُوق و حُلُق (ع ا): گلا۔الحلوق من الارض: زمین کی نالیاں، وادیاں۔کہا جاتا ہے: اخذوا فی حلوق الطریق: انہوں

نے تنگ راستے اختیار کئے۔ الحلاق و الحَوْلَق: گلے کا درد۔ الحِلاق: گلا۔

۴۔ حَلَقَ ـُ حَلْقًا القومُ بعضهُم بعضًا: ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ ـتِ السنةُ القومَ: قحط سالی کا قوم کو مصیبت میں ڈالنا۔ صفت: حَلُقَى۔ ـت السنةُ كلَّ شَىءٍ: قحط سالی کا ہر چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا اور ہلاک کر دینا۔ الحَالِقه جمع حَوَالِق: سخت سال، موت۔ الحَلَاق: موت مبنی علی الکسر معدول از حالقہ: موت۔ الحَالُوق: موت۔ الحَوْلَق والحَلِيق: بلا، مصیبت۔ الحالوقة: منحوس (لوگوں کے لئے) چنانچہ کہا جاتا ہے سيفٌ حالوقة اور رجل حالوقة: تیز تلوار اور سخت آدمی۔

۵۔ حَلَقَ ـُ حَلْقًا الحوضَ: حوض کو بھرنا۔ حَلَّقَ الاناءُ من الشراب: برتن کا بھر جانا، برتن کا پانی خشک ہو جانا۔ ضرعُ الناقة: اونٹنی کا دودھ خشک ہو جانا، چڑھ جانا۔ اَحْلَقَ الاناءَ او الحوضَ: برتن یا حوض کو بھرنا۔ حُلُقَةُ الحوض: حوض کا بھر جانا۔ ضرعٌ حالِقٌ جمع حُلَّق و حوالِق: دودھ سے بھرا ہوا تھن، دودھ کی کمی کی وجہ سے پیٹ سے چمٹا ہوا تھن۔ الحَالِقَة جمع حَوَالِق: الحالق کا مونث۔

۶۔ حَلَّقَت عينُ الحيوان: جانور کی آنکھ کا دھنس جانا۔

۷۔ حَلَّقَ الشيءَ: کو حلقہ کے مانند بنانا۔ القمرُ: چاند کے گرد حلقہ پڑنا۔ الطائرُ: پرندہ کا ہوا میں اڑ کر چکر لگانا۔ النجمُ: ستارہ کا بلند ہونا۔ تَحَلَّقَ القومُ: حلقہ بنا کر بیٹھنا۔ القمرُ: چاند کا ہالہ میں آنا۔ الحَلْقَة جمع حَلَق و حَلَقات: ہر گول چیز۔ حلقةُ القوم: قوم کا دائرہ۔ کہا جاتا ہے: سألهُ في حلقته: اس نے اس سے اس وقت سوال کیا جب کہ وہ اپنے طلباء کے حلقہ میں گھرا ہوا تھا۔ ـــ البابِ: دروازہ کا حلقہ۔ الحَالِق جمع حَلَقة من الجبال: اونچا چٹیل پہاڑ۔ کہا جاتا ہے۔ جاء من حالِقٍ: وہ اونچی جگہ سے آیا۔ هوى من حالقٍ: وہ ہلاک ہو گیا۔

۸۔ الحِلَق: بادشاہ کی انگوٹھی۔ الحَلْقَة جمع حَلَق و حَلَقات: زرہ۔ رسی الحَالِقَة جمع حَوَالِق: بری بات۔

۹۔ الحَوْقَلَة: دیکھو 'حول'۔

۱۰۔ حَلْقَمَ هُ: کا گلا کاٹنا۔ الحُلْقُوم جمع حَلاقِيم: گلا۔

○ حَلَقَ ـِ حلقاً ه: سر مونڈنا، چہرے کے بال مونڈنا، شیو کرنا، داڑھی مونڈنا۔ حَلَّقَ: ہوا میں گھومنا، چکر لگانا، منڈلاتے رہنا، گرد و پیش پھرتے رہنے، اڑنا اور پر کو اڑنا (پرندے، ہوائی جہاز کا)۔ ـــ علی/فوق: پر چکر لگانا، منڈلانا، اڑنا۔ ـ ه: کو گول کرنا، گول بنانا، حلقہ دار چھلے دار بنانا، کے گرد جانا۔ ـــ علی: کے گرد گھیرا ڈالنا، کو گھیر لینا، کو گھیرے میں لینا، حلقے میں لینا۔ تَحَلَّقَ: دائرہ بنانا، دائرہ میں بیٹھنا، حلقہ میں بیٹھنا۔ علی: کے گرد حلقہ بنا کر جمع ہونا۔ حَلْق: شیو کرنا، شیو۔ جمع حُلُوق و احلاق: گلا، حلقوم، نرخرا، منہ اور ناک کے پیچھے وہ جگہ جہاں ناک اور منہ کو جانے والے راستے گلے سے جڑتے ہیں۔ حَلْقِى: گلے کا، حلق کا۔ حَلَق: انگوٹھیاں، چھلے، بالیاں، آویزے، بندے۔ حَلْقَة و حَلَقَة جمع حَلَق و حَلَقات: چھلا، بالی آویزہ، بندہ وغیرہ، زنجیر کی کڑی، حلقہ، حلقہ اشخاص۔ دائرہ، ایک استاد کے تحت تعلیم پانے والے طلبہ کا گروہ، لیکچر، نصاب، سلسلہ کا حصہ، چھلا، ڈسک، دس سال کی مدت، مارکیٹ۔ حلقة النجاة: بچاؤ پہیہ (life buoy)، زندگی کی حفاظت کرنے والا۔ حلقةُ الاتصالِ و حلقةُ الوصل بين: کے درمیان ملانے والا رابطہ، تعلق، واسطہ۔ الحلقة المفقُودَة: گم شدہ رابطہ، کڑی، درمیانی شکل۔ في الحلقة السادسةِ مِن عمرِه: کی عمر کی چھٹی دہائی میں، ۵۰ تا ۶۰ کی عمر میں۔ حَلْقَةُ الأَسْمَاك: مچھلی منڈی حلقةُ القُطن: روئی مارکیٹ، کپاس مارکیٹ۔ حَلَقِى: چھلے کی شکل کا، گول۔ حَلاق: نائی۔ حَلاق صِحّى و حَلَّاقُ الصِحّة: ماہر سرجن۔ فصد کھولنے والا، جراح۔ حَلِيق: داڑھی مونچھ منڈا۔ حِلاقَة: شیو، شیو کرنا، نائی کا پیشہ۔ صابون الحلاقة: شیونگ سوپ۔ صالون الحلاقة و قاعة الحلاقة: نائی کی دکان، باربر شاپ۔ مَاكِينَةُ الحلاقة: و آلة الحِلاقة: سیفٹی ریزر۔ Safety razor مِحْلَق جمع مَحَالِق: استرہ۔ تحليق: (ہوائی جہاز کا) اڑنا، اڑان، پرواز (علی/فوق: کسی ملک پر) پرواز۔ من حالِقٍ: اوپر سے، بلندی سے۔ حُلْقُوم جمع حَلاقِيم: گلا، حلقوم، نرخرا۔ راحةُ الحلقوم: نشاستہ، چینی، مصطگی اور پستہ سے بنی ہوئی مٹھائی۔

حلك: حَلِكَ ـَ حُلُوكَةً وحَلَكًا وحُلُوكًا واحْلَوْلَكَ واسْتَحْلَكَ: سخت سیاہ ہونا صفت: حَالِك و حَلِكَ۔ الحَلَك و الحُلْكَة: سخت سیاہی۔ الحَلْكَة والحَلْكَاء والحُلُكَاء و الحُلُكَاء، والحَلكاء والحُلَكى: چھپکلی کی مانند ایک چھوٹا جانور جو انسان کو دیکھ کر ریت میں غوطہ لگاتا ہے۔

○ حَلِكَ ـَ حَلَكًا: کالا سیاہ ہونا، گہرا سیاہ ہونا۔ اِحْلَوْلَكَ: بمعنی: حَلِكَ۔ حَلَك: بے حد سیاہی۔ حُلْكَة: سخت سیاہی۔ حَلِك: کالا سیاہ، گہرا سیاہ، تاریک، گھٹا ٹوپ۔

حلم: ۱۔ حَلَمَ ـُ حُلُمًا و حُلْمًا في منامه: خواب دیکھنا۔ کہا جاتا ہے۔ حَلَمَهُ وحَلَم به: اس نے اس کو خواب میں دیکھا۔ اِنْحلَمَ و اِحْتَلَم في نومه: خواب دیکھنا۔ الحُلُم جمع اَحْلَام (مص): خواب۔ کہا جاتا ہے۔ هذه احلامُ نائمٍ: یہ جھوٹی آرزوئیں ہیں۔

۲۔ حَلُمَ ـُ حِلْمًا: درگزر کرنا، بردبار ہونا، صفت: حَلِيم جمع حُلَمَاء واَحْلام۔ مونث: حَلِيمة۔ حَلَّمَ تَحْلِيمًا و حِلَّامًا هُ: کو بردبار بنانا۔ تَحَلَّمَ: بردبار بننا۔ الحِلْمَ: بردباری سے کام لینا۔ تَحَالَمَ: ایسی بردباری ظاہر کرنا جو اس میں نہ ہو۔ الحِلْم جمع اَحْلام و حُلُوم: بردباری کبھی جہالت اور بے وقوفی کے مقابلہ میں آتا ہے (جیسے کہتے ہیں: ان سفاه الشيخ لاحِلْمَ بعده: بوڑھے کی کند ذہنی انتہاء پر ہے) صبر و وقار، آہستگی، سکون۔ عقل۔ کہا جاتا ہے: تامرهم احلامهم بكذا ان کی عقلیں انہیں اس کا حکم دیتی ہیں۔

۳۔ حَلَمَ ـُ حُلْمًا و حُلُمًا الصبيُّ واِحْتَلَمَ: لڑکے کا بالغ ہونا۔

۴۔ حَلَمَ ـُ حَلْمًا الجلدَ: چمڑے میں سے کیڑے نکالنا۔ حَلِمَ ـَ حَلَمًا الجلدُ: چمڑے کا خراب ہونا اور اس میں کیڑے پڑ جانا صفت: حَلِم و حَلِيم حَلَّمَ الجلدَ: چمڑے سے کیڑے نکالنا۔ الحَلَمَة جمع حَلَم (ح): چمڑے کا کیڑا۔ المَحْلِمَة جمع مَحَالِم: بہت کیڑوں والا۔

۵۔ حَلَّمَ تَحْلِيمًا و حِلَّامًا القِربةَ: مشک کو بھرنا۔ تَحَلَّمَت القربةُ: مشک کا پانی سے بھر جانا۔ الرجلُ: آدمی کا موٹا ہونا۔ الحَلِيم: موٹائی کی چربی۔ الحَلَمَة جمع حَلَم (ع ا): سر پستان۔

۶۔ الحُلَيْمَات: ـ العليا: (چونے کا) سقفی قلم (stalactite)۔ ـــ السفلى (چونے کا) فرشی قلم (Stalegmite)۔

○ حَلَمَ ـُ حُلْمًا عن / ب: کا خواب دیکھنا۔ في ان: خواب دیکھنا کہ وہ ہوگا ہو جائے گا کر رہا ہوگا وغیرہ۔ (مستقبل میں)۔ ـ ب: پر غور و فکر کرنا، سے عالم محویت میں جانا۔ ـ: بالغ ہونا۔ حَلُمَ ـُ حِلْمًا:

نرم ہونا، دھیما ہونا، بردبار ہونا۔ حَلُمَ ـُ حِلْمًا: نرم ہونا، دھیما ہونا، بردبار ہونا۔ حُلُم جمع اَحْلام: خواب (جمع) خیالی دنیا، خوابوں کی دنیا۔ حُلُمِی: خواب کا، خواب کے متعلق۔ حُلُم: جنسی بلوغت، بلوغت، سن بلوغت۔ جوان ہونا۔ بَلَغَ الحُلُمَ: بالغ ہوجانا جنسی طور پر بالغ ہونا، سن بلوغت کو پہنچنا۔ حِلْم جمع حُلُوم و اَحْلام: نرمی، دھیما پن شرافت، بردباری، رحم دلی، برداشت، صبر، شفقت، بخشش، عفو و کرم، بصیرت، دقت نظر، ادراک، نکتہ رسی، ذہانت، علم، سمجھ، فہم وفراست، عقل۔ صِغارُ الاحلام: سادہ لوح لوگ، سادہ لوگ۔ حَلَم اسم جنس واحد حَلَمة: چچڑ، چھوٹا سا کیڑا، سرپستان، بھٹنی، چوچی، جانوروں کا تھن۔ حَلَمِیّ: طفیلی (پودا یا کیڑا) سرپستان کی شکل کا، تھن کی شکل کا۔ حَلِیم جمع حُلَمَاء: نرم، دھیما، بردبار، شریف، صابر۔ حَلُوم و حَالُوم: مصری پنیر کی ایک قسم۔ حَالِم جمع حَالِمُون: خواب دیکھنے والا۔ مُحْتَلِم: جنسی طور پر بالغ، جوان ہونے والا، شادی بیاہ کے قابل۔

حلا: ۱۔ حَلَا ـُ حَلاوَةً و حُلْوَانًا: میٹھا ہونا — تِ الفاکهةُ: پھل کا پکنا۔ — لَهُ الشیءُ: کے لئے لذیذ ہونا صفت: حُلْو۔ — الشیءَ: کو میٹھا یا شیریں بنانا۔ حَلُوَ ـُ حَلاوَةً و حُلْوانًا: میٹھا ہونا۔ — ت الفاکهةَ: پھل کا پکنا۔ حَلِیَ ـَ حَلاوَةً و حُلْوانًا: میٹھا ہونا۔ — ت الفاکهةُ: پھل کا پکنا، حَلَّی الشیءَ تَحْلِيَةً: کو میٹھا بنانا، شیریں بنانا۔ حالَی مُحَالاةً الرجلَ: سے خوش طبعی کرنا۔ اَحْلَی اِحْلاءً هُ: کو میٹھا پانا یا بنانا یا کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ مایُمِرُّ ولا یُحْلِی: وہ کڑوی میٹھی کوئی بات نہیں کرتا یا اچھا برا کوئی کام نہیں کرتا۔ تَحَلَّی و اَسْتَحْلَی الشیءَ: کو میٹھا پانا۔ اِحْلَوْلَی الشیءُ: چیز کا میٹھا ہونا۔ — الشَّیءَ: کو میٹھا پانا۔ الحُلْو: میٹھا، شیریں، خوش مزہ، لذیذ۔ الحَلْوَی و الحَلْوَاء جمع حَلاوَی: میٹھا پھل (ط): حَلْوا۔ الحَلْوانِیّ: حلوا بنانے یا بیچنے والا۔ الحَلاوَة (ط): ایک قسم کا حلوا۔ الحَلِیّ: لذیذ اور میٹھا۔

۲۔ حَلَا ـُ وحَلِیَ ـَ حَلاوَةً و حُلْوَانًا منه بخیر: سے بھلائی وخیر پانا۔ کہا جاتا ہے۔ حَلاهُ حُلْوانه: اس نے اس کو عوض وبدلہ دیا۔ الحُلْوان: دلال یا کاہن کی اجرت، عطیہ۔

۳۔ حَلَا ـُ حَلاوَةً و حُلْوانًا هُ کذا او بکذا: کو کوئی چیز دینا۔ حَلِیَ ـَ حَلاوَةً و حُلْوانًا: اچھا یا بھلا معلوم دینا۔ کہا جاتا ہے۔ حَلِیَ فی عینی و بعینی: وہ میری آنکھوں میں بھلا لگا۔ تَحَلَّتِ المرأةُ: عورت کا زیور پہننا۔ کہا جاتا ہے۔ تَحَلَّی فلانٌ بمالیس فیه: فلاں شخص نے خود کو ایسی چیزوں سے آراستہ کیا جو اس میں موجود نہیں۔ تَحَالَی: مٹھاس اور تعجب کا اظہار کرنا۔ الحُلْو: خوبصورت۔ الحُلْوُ من الرجال: دیکھنے میں اچھا لگنے والا۔ ناقةٌ حَلِیَّةٌ: پوری حلاوت والی اونٹنی۔

۴۔ حَلَا ـُ حَلْوًا و حُلْوانًاهُ: سے کچھ یا سب مہر کی وصولی کی شرط پر اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کرنا۔

۵۔ الحَلاءَة و الحَلاوَة والحَلاواء و الحُلاوَی جمع حَلاوَی هیّ القفا: گدی کا درمیانی حصہ۔

حَلی: ۱۔ حَلَی ـِ حَلْیًا المرأةَ: عورت کے لئے زیور بنانا، عورت کو سنوارنا، آراستہ کرنا۔ حَلِیَ ـَ حَلْیَات المرأةُ: عورت کا زیور پہننا صفت۔ حالٍ و حَالِیة جمع حَوَالٍ۔ حَلَّی تَحْلِيَةً المرأةَ: عورت کو زیور پہنانا یا اس کے لئے زیور بنانا۔ — الشیءَ: کو زینت دینا۔ تَحَلَّی: مزین وآراستہ ہونا، زیور پہننا۔ الحَلْیُ جمع حُلِیّ وحِلِیّ و الحِلْیَة جمع حِلًی و حُلًی (خلاف قیاس): زیور (سونے چاندی وغیرہ اور قیمتی پتھروں کا) جو زینت وآرائش کے لئے پہنا جاتا ہے۔ حِلْیَةُ الانسان: انسان کا رنگ روپ اور ظاہری شکل وصورت۔ الحَالِیَة من الاشجار: ہرا بھرا پھل دار درخت۔

۲۔ حَلِیَ: دیکھو حلا۔

۳۔ الحَلِی (طب): بچوں کے مونہوں پر نکلنے والی پھنسیاں۔ الحَلِیّ: خشک۔

○ حَلُوَ ـُ وحَلِیَ ـَ وحَلَا ـُ حَلاوَةً وحُلْوانًا: میٹھا ہونا، — لِـ ہ کے لئے خوشگوار ہونا خوش آئند ہونا، مرغوب ہونا، پسندیدہ ہونا، عمدہ ہونا، نفیس ہونا، پرلطف ہونا، سہانا ہونا، دل پذیر ہونا، موافق یا مطابق ہونا حَلالَهُ الشیءُ: اس نے اس سے لطف اٹھایا۔ حلاله ان: اسے اس بات سے خوشی ہوئی کہ، اسے یہ بات پسند آئی کہ۔ حَسْبَما یَحْلُوله: کی مرضی پر، جیسے وہ چاہے۔ حَلَی ـِ: آراستہ کرنا، سجانا، آرائش کرنا، سنگار کرنا، عزت بخشنا مشرف کرنا۔ حَلِیَ ـَ ب: سے آراستہ ہونا، مزین ہونا۔ حَلَّی ہ: کسی چیز کو میٹھا کرنا۔ — ہ/ ہ ب: کو سے سجانا، مزین کرنا، زینت دینا، کی سے تزئین کرنا، کو کوئی چیز پہنانا، کو کچھ دینا، مہیا کرنا فراہم کرنا۔ تَحَلَّی ب: سے آراستہ ہونا، مزین ہونا سنگار کرنا، مشرف ہونا، کوئی چیز ودیعت کیا جانا، فراہم کیا جانا، بہم پہنچایا جانا۔ اِسْتَحْلَی ہ: کو میٹھا، خوشگوار، خوش آئند، لذیذ پانا، کو پسند کرنا، سے خوش ہونا۔ حَلاً: مٹھاس، خوش گواری، پسندیدگی۔ حُلْو: میٹھا خوشگوار، خوش آئند، عمدہ، دل پسند، دلفریب، دلربا۔ من موہنا، مسرت بخش، دلکش، مسرت افزا، دلچسپ، خوبصورت حلو الحدیث: دلچسپ پیرائے میں کہانیاں بنانے والا وہی شخص، پرلطف دلچسپ، دل بہلانے والا۔ الغُدَّةُ الحُلْوَة: پیٹ کے نیچے کے حصہ کا ایک غدود، لبلبہ۔ حَلْی جمع حُلِی: زیور۔ چھوٹا سا ستا زیور۔ حِلْیَة جمع حِلًی وحُلًی: سجاوٹ، آرائش، آراستگی، تزئین، زیور، آرائش کی چیز، بناؤ سنگار کا سامان، سامان آرائش، بناؤ سنگار کی چیزیں، شاندار زیور یا لباس۔ حَلْوَی جمع حَلاوَی: ٹافی، کھانڈ کی مٹھائی، مٹھائیاں، مٹھائی، شیرینی، کیک، پیسٹری، حَلْوَاء: ٹافی، کھانڈ کی مٹھائی، مٹھائیاں، مٹھائی، شیرینی، کیک، پیسٹری حَلْوَیات و حَلاوِیات: مٹھائیاں، میٹھی پیسٹری، ٹافیاں، کھانڈ کی مٹھائیاں، کیک، پیسٹری، مٹھائیاں، شیرینی۔ حَلاوة: مٹھاس، مٹھائیاں، شیرینی، کیک پیسٹری۔ حسن جمال، آن شان، عشوہ طرازی، دلفریبی، دلکشی، دلربائی، دل آویزی، شائستگی، پاکیزگی، نفاست، سمجھ، زیرکی ہوشمندی، عطیہ، فدیہ حُلْوَان: عطیہ، تحفہ، بخشیش، انعام، حَلْوَانِی و حَلْوَانِیّ: مٹھائی فروش، حلوائی، کینڈی فروش، پیسٹری بنانے والا۔ ما اَحْلَی: اوہ، وہ کتنا میٹھا ہے۔ ما احیلاہ: واہ، خوب، کتنا میٹھا ہے۔ تَحْلِیَة: سجاوٹ، آرائش آراستگی، تزئین۔ زیور، زیبائش، مُحَلًّی: میٹھا، میٹھا کیا ہوا۔ — ب: سے سجا ہوا، آراستہ، سجا دھجا ہوا آرائش کیا ہوا، سنگار کیا ہوا زیبائش کیا ہوا، خوبصورت یا خوشنما بنایا ہوا۔

حمّ: ۱۔ حَمَّ ـُ حَمًّا التنورَ: تنور کو گرم کرنا۔ الشحمة: چربی پگھلانا، — الماءَ: پانی گرم کرنا۔ ـَ حَمَمًا الماءُ: پانی کا گرم ہونا۔ حَمَّمَ الماءَ: پانی کو گرم کرنا۔ — الرجلَ: کا کوئلہ سے منہ کالا کرنا۔ — فلانًا: کو گرم پانی سے نہلانا۔ اَحَمَّ الماءَ: پانی کو گرم کرنا۔ اِحْتَمَّ: مضطرب ہونا، پریشان ہونا، ہلچل کی حالت میں ہونا۔ تَحَمَّم بالماء: پانی سے غسل کرنا۔ اِسْتَحَمَّ: پانی سے غسل کرنا، حمام میں داخل ہونا، پسینہ والا ہونا۔ حَمُّ الظَهِیرة: دوپہر کے وقت شدت کی گرمی۔ الحَمَّة: گرم پانی کا چشمہ۔ الحِمَّة: پسینہ۔ الحُمَم واحد حُمَمَة: آگ میں جلی ہوئی

ہر شئے۔ لاوا۔ راکھ۔ صارت الفتیان حُمَماً: نوجوان راکھ ہو گئے۔ یہ ضرب المثل اس وقت کہی جاتی ہے جب کسی متوقع بات سے مایوسی ہو جائے۔ الحَمِیم جمع حَمائِم: گرم پانی۔ ٹھنڈا پانی (ضد) پسینہ۔ چنگاری جس سے دھونی دی جائے۔ گرمی (دن کی)، سخت گرمی کے بعد بارش۔ الحَمِیمَة جمع حَمائِم: گرم پانی، گرم کیا ہوا دودھ۔ المِحَمّ: پانی گرم کرنے کا برتن۔ الحَمّام جمع حَمّامات: نہانے کی جگہ (زیادہ تر مذکر استعمال ہوتا ہے)۔ حَمّامُ ماریا: آگ پر ابلتے پانی میں اس وقت تک رکھنا جب تک اس میں رکھی چیز پانی کی گرمی سے پک نہ جائے۔ الحَمّامِیّ: حمام کا مالک، حمام کا محافظ۔ المُستَحَمّ: نہانے کی جگہ۔

۲۔ حَمَّ ـُ حَمّاً الارتحال: کوچ جلدی کرانا۔ حُمَّ الشیءُ: قریب ہونا۔ احَمَّ الشیءُ: قریب ہونا۔

۳۔ حَمَّ ـُ حَمّاً اللّٰہُ لہ کذا: کے لئے اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز مقدر کرنا۔ حُمَّ الامرُ: کسی معاملہ کا فیصلہ کیا جانا۔ - لہ کذا: کے لئے کچھ مقدر کیا جانا۔ احَمَّ اللّٰہ لہ کذا: اللہ تعالیٰ کا کسی کے لئے کوئی چیز مقدر کرنا۔ الحُمَّة جمع حُمَم و حِمام: مقدر میں لکھی ہوئی اور فیصل شدہ چیز۔ حُمَّةُ الفراق: اسی سے ہے۔ کہتے ہیں۔ عجلت بنا وبکم حُمَّةُ الفراق: تقدیر میں لکھے ہوئے فراق نے ہمارے اور تمہارے ساتھ جلدی کی۔ الحِمَّة: موت۔ المَحمُوم: مقدر میں لکھا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔ نَزَلَ بہ القضاء المَحمُوم: اس پر قضائے مقدر آپڑی۔ اسی طرح القضاء المحموم بھی لکھی ہوئی اور مقدر قضا کے معنی میں مستعمل ہے۔

۴۔ حَمَّ ـُ حَمّاً الامرُ فلاناً: کو غم میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: حَمَّ حَمَّہُ: اس نے اس کی طرح قصد کیا۔ احَمَّ الامرُ فلاناً: کو غم میں ڈالنا۔ اِحتَمَّ: غم کی وجہ سے نیند نہ کرنا۔ - تِ العینُ: آنکھ کا بغیر درد کے بیدار رہنا۔ الحَامَّة: کسی شخص کے خاص لوگ جیسے اہل دعیال وغیرہ۔ الحَمِیم جمع اَحِمّاء: قریبی عزیز و رشتہ دار۔ دوست۔ کہا جاتا ہے۔ ھو حَمِیمٌ بالحاجة: وہ اپنی ضرورت پر توجہ دینے والا ہے، اپنی حاجت سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے۔ الاحم جمع حُمّ: بہت خاص، بہت قریبی۔ المُحِمّ: قریب۔ نزدیک۔

۵۔ حَمَّ ـَ حَمَماً: کالا ہونا، سیاہ ہونا۔ حَمَّمَ الشیءَ: کو کالا کرنا، سیاہ کرنا۔ - الغلامُ: لڑکے کی داڑھی اگنے لگنا۔ - الرأسُ: مونڈے جانے کے بعد سر کے بال اگنا، نکلنا۔ - المکانُ: کسی جگہ میں سبزہ اگنے لگنا۔ احَمَّ الشیءَ: کو کالا کرنا، سیاہ کرنا۔ تَحَمَّمَ: کالا ہونا، سیاہ ہونا۔ الحُمَّة جمع حُمَم وحِمام: سیاہی، سیاہی وسبزی کے درمیان رنگ۔ الحُمَم واحد حُمَمَة: کوئلہ۔ الاحَمّ جمع حُمّ: سیاہ۔ سفید (ضد)۔ الیَحمُوم: سیاہ دھواں۔

۶۔ حُمَّ الرجلُ: بخار میں مبتلا ہونا، کو بخار آنا۔ احَمَّہُ اللّٰہُ: کو اللہ تعالیٰ کا بخار میں مبتلا کرنا۔ المکانُ: کسی جگہ بخار بہت پھیل جانا۔ الحُمّٰی جمع حُمَّیات: بخار۔ الحُمَّة جمع حُمَم و حِمَام: بخار۔ الحُمَام (طب): جانوروں کا بخار خصوصاً گھوڑوں کا بخار۔ المَحمُوم: بخار میں مبتلا۔

۷۔ حَمَّمَ المرأةَ: عورت کو طلاق کے بعد کچھ سامان بطور معاوضہ دینا۔

۸۔ حُمُّ الشیءِ وحُمَّہُ: چیز کا بڑا حصہ کہا جاتا ہے۔ مالہ حُمٌّ من ذلک او منہ: اس کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ الحَامَّة: عمدہ اونٹ۔ الحَمِیمة جمع حَمائِم: عمدہ نسلی اونٹ۔ الحَمَام واحد حَمَامَة جمع حَمَائِم وحَمَامَات (ح): کبوتر۔ حمامة مذکر و مونث دونوں کے لئے مستعمل ہے کیونکہ اس میں تاء تانیث کی نہیں بلکہ وحدت کی ہے۔ بہت دفعہ حَمَام کا اطلاق مفرد پر کیا جاتا ہے۔ حَمَامُ الزاجل او المزجّال: نامہ بر کبوتر۔ ساق الحَمَام و رِعیُ الحَمَام (ن): دوقسم کی گھاس کے نام۔ بیضُ الحَمَام: بڑے دانے والا انگور۔ عنقُ الحَمَام: سرخ و نیلے رنگ کے درمیان کا رنگ۔ الحُمَام: سردار، شریف۔ الاحَمّ جمع حُمّ: پھل نہ رکھنے والا تیر۔ المُحَام: ثابت۔ الحُمَامَی (ن): ایک قسم کی گھاس۔ چمڑے کی سرخی۔

۹۔ حَمحَمَ و تَحَمحَمَ البرذَونُ او الفرسُ: گھوڑے کا ہنہنانا۔ تَحَمحَمَ: کالا ہونا، سیاہ ہونا۔ الحِمحِم والحُمحُم (ح): ایک پرندہ (ن) گاؤزبان الحَمَاحِم واحد حَمَاحِمَة (ن): چوڑے پتے کا پودینہ۔

۞ حَمَ جمع اَحماء: خسر، سسر (جمع) بیوی کے رشتہ دار، سسرال والے حَمَاقجمع حَمَوات نساء، خوش دامن۔ حَمَّ ـَ حَمّاً ہ: کو گرم کرنا۔ حُمَّ: کو بخار ہونا، کا بخار میں مبتلا ہونا، کو حرارت ہونا۔ حُمَّ لہ ذلک: وہ اس کے لئے مقدر تھا، وہ اس کی قسمت سے ہے، مقدر یا نصیب ہے۔ حَمَّمَ ہ: کو گرم کرنا۔ ہ کو دھونا، نہلانا۔ احَمَّ ہ: کو گرم کرنا۔ اِستَحَمَّ: نہانا، غسل کرنا۔ حَمَّة: گرم (پانی کا) چشمہ۔ حُمَّة: سیاہی، سیاہ فام ہونا، بخار۔ حُمَم واحد حُمَمَة: کوئلہ، جل کر کوئلہ ہو جانے والی چیز، جلا کر کوئلہ بنائی ہوئی چیز، کاربن بنائی چیز، راکھ، ادھ جلا کوئلہ یا لکڑی، لاوا، آتش فشاں پہاڑ کا پگھلا ہوا مادہ۔ حُمّٰی (مونث) جمع حُمَّیات: بخار، بخار کی گرمی۔ الحُمّٰی التیفودیة اور الحُمّٰی التیفیة: ٹائیفائڈ بخار۔ حُمَّی الدِق: تپ دق کا بخار۔ حُمَّی الربع: چوتھیا بخار، باری کا بخار۔ الحُمّٰی الراجعة: عود کر آنے والا بخار۔ الحُمّٰی الصفراء یا الحُمّٰی الصفراویة: وہ بخار جس کے ساتھ یرقان بھی ہو جاتا ہے۔ حُمَّی الغِب: باری کا یا تیسرے دن کا بخار۔ الحُمّٰی الفحمیة: پھوڑے پھنسیاں نکل آنے پر ہو جانے والا بخار۔ الحُمّٰی القرمزیة: لال بخار۔ حُمّٰی القش: تپ کاہی۔ الحُمّٰی القلاعیة: منہ اور پاؤں کا بخار۔ الحُمّٰی المُخّیة الشوکیة: گردن توڑ بخار (حرام مغز کی جھلی گلے ورم کی وجہ سے) الحُمّٰی النفاسیة: پرسوت کا بخار۔ الحُمّٰی النمشیة: بخار جس سے داغ پڑ جائیں۔ حُمّیّ: بخار کا، بخار کا سا، بخار سے متعلق، بخار جیسی حالت والا۔ حَمَام: اسم جنس واحد حَمَامَة جمع حمامات، حَمَائِم: کبوتر، قمری، فاختہ۔ حَمَامُ الزاجل: نامہ بر کبوتر ساق الحمام (ن): گاؤزبان۔ حِمَام: موت، انجام، حشر۔ حَمّام جمع حَمّامات: غسل خانہ، حجام، پیراکی کا تالاب، معدنی چشمہ، جوہڑ۔ حَمّام شمس: دھوپ کھانا۔ حَمّاماتٌ بَحرِیَّةٌ: ساحلی تفریح گاہیں۔ حَمِیم جمع اَحِمّاء: جگری یا قریبی دوست، قریبی، گہرا، دلی، گرم پانی۔ احَمّ مونث حَمّاء جمع حُمّ: سیاہ، کالا۔ حِمَمّ: گرم پانی کی کیتلی، معلق کڑھاؤ، کڑاہی، دیگ۔ (مشین وغیرہ کا) پانی گرم کرنے والا حصہ، بائلر، حمام۔ استحمام: غسل کرنا، غسل۔ مَحمُوم: بخار کا سا، بخار میں مبتلا، بدحواس، بیماری سے سرخ، ہیجان خیز، پر جوش مشتعل۔

حمأ: حَمَأَ ـَ حَمأً البئرَ: کنوئیں سے کیچڑ نکالنا۔ حَمِیءَ ـَ حَمَأً وحَمأً الماءُ: پانی میں کیچڑ ملا ہوا ہونا صفت: حَمِیءٌ۔ اَحمَأ البئرَ: کنوئیں میں کیچڑ ڈالنا۔ الحَمَأ والحَمأة: سیاہ کیچڑ۔ الحَمءُ والحَمأُ والحَمُوُ والحَمَا (ہمزہ کے بغیر) جمع احماء: شوہر کا باپ، خسر۔ دیور، جیٹھ وغیرہ۔

حَمَأَ - حَمْأً هُ: کنوان صاف کرنا، کنویں سے کیچڑ نکالنا۔ حَمَأ وحَمَا: کیچڑ، دلدل، غلاظت۔ موری کی کیچڑ، چکنی کیچڑ۔ حَمِئَ علی: سے ناراض ہونا یا ہو جانا، پر برہم ہونا، غضبناک ہونا، آپے سے باہر ہونا۔

حمت: ا۔ حَمَتَ ـِ حَمْتَهُ اللّٰهُ عليه: کو اللہ تعالیٰ کا کسی پر ڈالنا، عائد کرنا۔ حَمُتَ ـُ حُمُوتَةً اليومُ: دن کا بہت گرم ہونا۔ الحَمْتُ من الايام: سخت گرم دن۔ الحَمِيت: شدید، سخت۔ کہا جاتا ہے۔ غضبٌ حميتٌ: سخت غصہ۔

۲۔ حَمِتَ - حَمَتًا الجوزُ وغيرُهُ: اخروٹ وغیرہ کا خراب ہونا۔

۳۔ تَحَمَّتَ اللونُ اوالطعمُ: رنگ یا مزہ کا صاف اور خالص ہونا۔ الحَمْتُ والحامِتُ من التمر: نہایت شیریں کھجور۔ کہا جاتا ہے۔ تمرٌ حَمِيتٌ و عسلٌ حَمِيت: صاف اور خالص مزہ کی کھجور اور شہد۔

حمج: حَمَّجَت العينُ: آنکھ کا گڑھے میں بیٹھنا، دھنسنا۔ الوجهُ: غضب وغیرہ سے چہرے کا رنگ بدلنا۔ اليه: کو تیز نظر سے دیکھنا۔ عينَهُ: گھور کر دیکھنا۔

حمد: ا۔ حَمِدَ - حَمْدًا و مَحْمَدًا و مَحْمِدًا و مَحْمَدَةً و مَحْمِدَةً هُ: کی تعریف کرنا۔ الشيءَ: چیز کا تعریف والا ہونا۔ حَمِدَ ـهُ: کی تعریف کرنا، کا شکریہ ادا کرنا۔ کہا جاتا ہے: حمدتُ اِليكَ اللّٰهَ: میں تمہارے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہوں یا تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ بجالاتا ہوں۔ حَمَّدَ اللّٰهَ: اللہ تعالیٰ کی بار بار تعریف کرنا اور الحمدللہ کہنا۔ اَحْمَدَ: قابل تعریف و ستائش کام کرنا۔ الشيءُ: لائق ستائش ہونا، قابل تعریف ہونا۔ الشيءَ: کو قابل ستائش پانا۔ ـهُ: کے فعل و تصرف پر راضی ہونا کا مستحق تعریف ظاہر ہونا۔ تَحَمَّدَ بالشيءِ علی فلانٍ: پر کسی کو احسان جتانا۔ کہا جاتا ہے: انه يَتَحَمَّدُ الناس بفضله: وہ لوگوں کے سامنے اپنا قابل تعریف ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اِستَحْمَدَ اللّٰهُ اِلی خلقه: اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے ان پر اپنے احسان وانعام کی وجہ سے تعریف کرنے کا تقاضا کرنا۔ الحَمْد (مص): تعریف۔ تعریف کیا ہوا، قابل تعریف وستائش۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ حَمْدٌ و امرأةٌ حَمْدَةٌ: تعریف کیا ہوا مرد اور تعریف کی ہوئی عورت۔ الحَمِيد و الحَمُود مونث حَمِيدَة: تعریف کرنے والا یا تعریف کیا ہوا۔ حَمادِلهُ: بمعنی حمداً لهُ: اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحَمَّاد و الحُمَدَة: بہت تعریف کرنے والا۔ المَحْمَدَة جمع مَحامِد: قابل تعریف کام۔ المُحَمَّد: بہت سی قابل تعریف خصلتوں والا۔ لوگوں نے حَمَد و حامد و مُحَمَّد و مَحْمُود وحمید نام رکھے۔

۲۔ حَمِدَ - حَمْدًا و مَحْمَدًا و مَحْمِدًا و مَحْمَدَةً و مَحْمِدَةً هُ علی امر: کو کسی کام کا بدلہ دینا۔

۳۔ الحُمَاد: غایت، انتہائی کوشش۔ کہا جاتا ہے: حُمادُك ان تفعل كذا: تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ ایسا کرو۔

○ حَمِدَ - حَمْداً ہ علی / ہ: کی پر تعریف کرنا، حمد وثنا کرنا، حمد کرنا، کو پر بڑھانا، کی پر تعریف کے پل باندھنا۔ حَمَّده: کی بہت تعریف کرنا۔ حَمْد: تعریف، ستائش، حمد وثنا۔ الحمدُ للّٰه: خدا کا شکر ہے۔ سکھ اور خوشی کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری۔ حَمِيد: قابل تعریف، قابل ستائش، مستحسن پسندیدہ، سراہنے کے قابل، تعریف کیا گیا۔ اَحْمَد: زیادہ مستحسن، زیادہ قابل تعریف، زیادہ سراہنے کے قابل، زیادہ پسندیدہ۔ الشريعة الاحمدية: محمدی قانون۔ مَحْمَدَة جمع مَحامِد: قابل تعریف کام۔ مَحامِد: مدحین، تعریفیں۔ مَحْمُود: تعریف کیا گیا، قابل ستائش قابل تعریف، مستحسن۔ مُحَمَّد: تعریف کیا گیا، قابل تعریف، قابل ستائش، مستحسن، مُحَمَّدِيّ: محمد ﷺ کے متعلق یا ان سے منسوب۔

○ حَمْدَلَ: الحمدللہ کہنا۔ حَمْدَلَة: الحمدللہ کہنا۔

حمر: ا۔ حَمَرَ ـُ حَمْرًا الجلدَ: کھال کھرچنا۔ الشاةَ: بکری کی کھال اتارنا۔ اِنْحَمَرَ ما علی الجلد: کھال کے اوپر کی چیز کھرچا جانا۔ الحَمِر من الغيث: سخت بارش جو زمین کو چھیل ڈالے۔ المِحْمَر جمع مَحامِر: چمڑا چھیلنے کا آلہ۔

۲۔ حَمَرَ ـُ حَمْراً الرأسَ: سر مونڈنا۔

۳۔ حَمِرَ - حَمَراً الفرسُ: گھوڑے کا بدہضمی والا ہونا، بد بودار منہ والا ہونا۔ صفت: حَمِر۔ اَحْمَرَ الدابةَ: جانور کو اتنا چارہ دینا کہ اس کے منہ کی بو متغیر ہو جائے۔

۴۔ حَمِرَ - حَمَراً الرجلُ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔

۵۔ حَمَّرَ الجلدَ: چمڑے کو خراب رنگنا۔

۶۔ حَمَّرَ الشيءَ: کو سرخ رنگ سے رنگنا۔ اَحْمَرَ: سرخ بچے والا ہونا۔ اِحْمَرَّ اِحْمِراراً: سرخ ہونا۔ اِحْمارَّ اِحْمِيراراً: بتدریج زیادہ سرخ ہونا۔ الحُمَر: ایک قسم کی رال جس کو عام لوگ الحُمَّر کہتے ہیں۔ — والحُمَّر واحد حُمَراة و حُمَّرَة (ح): سرخ رنگ کا پرندہ۔ الحُمَّرَة (ح): پرندہ۔ الحُمْرَة: سرخ رنگ، رنگ سرخ کرنے کا رنگ۔ (طب): ایک وبائی مرض جس سے بخار ہو جاتا ہے اور جلد پر سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اس بیماری کے جراثیم جسم میں زخم یا خراش سے داخل ہوتے ہیں۔ (ن): ایک زہریلا پودا۔ آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے اور طبی امور میں خصوصاً آنکھوں کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الأحْمَر جمع احامِر: سرخ رنگ کی چیز، جس کا رنگ سرخ ہو۔ جمع حُمْر و حُمْران: سرخ رنگ میں رنگا ہوا۔ سونا، زعفران، گوشت، شراب، کہتے ہیں: نحنُ من اهل الاسودين لامن اهل الاحمرين: ہم کھجور و پانی والے ہیں، گوشت و شراب والے نہیں۔ الموت الأحمر: قتل۔ (یہ خونریزی یا سخت موت سے کنایہ ہے)۔ الحَمْراء: الأحْمَر کا مؤنث، سخت سال۔ الأُحْمَرِيّ: بہت سرخ۔ اليَحْمُور: سرخ (ح): ایک قسم کا پرندہ۔

۷۔ حَمَّرَهُ: کو گدھا کہنا۔ الحِمار جمع حَمِير و اَحْمِرَة و حُمُر و حُمُور و حُمُرات مونث: حِمارَة جمع حَمائِر: گدھا۔ پالتو ہو یا وحشی وجنگلی۔ جنگلی گدھے کو حمار وحش، حمار الوحش اور الحمار الوحشی کہا جاتا ہے۔ حِمارُ الزَرَد (ح): جنگلی سفید رنگ اور سیاہ دھاریوں والا گدھا۔ الحِمار البرّی (ح): گدھے اور گھوڑے کے مابین ڈھانچے والا جانور جو بڑے گھاس دار میدانوں اور پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے۔ المِحْمَر جمع مَحامِر (ح): دوغلا گھوڑا۔ کنجوس آدمی۔ الحَمّارَة واحد حَمّار (حمال و بغال کی طرح): (سفر میں) گدھے والے، دوغلا گھوڑا اليَحْمُور (ح): جنگلی گدھا۔ (ح) گورخر۔

۸۔ اِحْمَرَّ الباسُ: تکلیف کا بڑھ جانا۔ الحَمّارة جمع حَمار: گرمی کی شدت، الحَمْراء: گرمی کی شدت۔ الحِمِرّ: گرمی کی سخت تیزی۔ برا شخص۔ کہا جاتا ہے: اِنّ فلانا لَفِي حِمِرّه: فلاں شخص تو اپنی برائی اور سختی میں ہے۔

۹۔ حِمارَةُ القدم: پشت قدم۔ الحَمْراء: تین لکڑیاں جن کو ایک دوسرے سے باندھ کر اس پر دودھ کا مشکیزہ یا پانی کی صراحی وغیرہ رکھتے ہیں۔ اس کو الحمار بھی کہا جاتا ہے۔

○ حَمَّرَهُ: کو سرخ کرنا، سرخ رنگ میں رنگنا، کو بھوننا، تلنا، آگ میں رکھ کر بھورا کرنا، اِحْمَرَّ: سرخ ہونا، شرمانا، چہرے پر سرخی دوڑ جانا حُمَر: اسفالٹ (asph alt)۔ حُمَرِی: اسفالٹ، اسفالٹ کا، اسفالٹ کے

متعلق، کولتار، الک، کولتاروالا۔ حَمْـرَة: سرخی، سرخ رنگ، سرخ رنگ لگانا، سرخ، گلگونہ، اینٹوں کی خاک، اینٹوں کے روڑے۔ زہرباد۔ حِمار جمع حَمِير و حُمُر و اَحْمِرَة: گدھا۔ خر۔ حمار الوحش اور حمار وحشی: جنگلی گدھا، گورخر۔ سَمُّ الحِمار: ایک جھاڑی جس کے پھول سرخ، سفید یا گلابی پیازی ہوتے ہیں اور پتے سخت ہوتے ہیں۔ حَمارة جمع حَمائِر: گدھی۔ حُمُور: ہرخ، سرخ رنگ، سرخی حَمّار جمع حَمّارة: گدھا ہانکنے والا۔ اَحْمَر مونث حَمْراء جمع حُمْر: سرخ، سرخ رنگ کا، گلابی، پیازی۔ دون الاحمر و تحت الاحمر: ماورائے احمر، تحت احمر (شعاعیں)۔ البَحْرُ الاحمر: بحر احمر الصلیب الاحمر: ریڈ کراس۔ الموت الاحمر: تشدد آمیز موت۔ الهوىٰ الاحمر: جنسی اختلاط۔ الاحمران: دو سرخ چیزیں، شراب اور گوشت الاسود والاحمر: سیاہ و سرخ، کل نسل انسانی۔ احمر الشفاه: لپ سٹک حَمْراء۔ اناج کی ایک بیمار جو بالیوں کو سیاہ کر دیتی ہے۔ الحمراء: غرناطہ کا قلعہ۔ یَحْمُور: سرخ ہرن، چھوٹا ہرن، چکارا، جنگلی گدھا۔ اِحْمِرار: سرخ ہونا، شرمانا، چہرے پر سرخی دوڑ جانا سرخی، سرخ رنگ۔ مُحَمَّر: بھنا ہوا۔ بَطاطِس مُحَمَّرة: تلے ہوئے آلو۔

حمز: حَمَزَ ـِ حَمْزًا الشفرةَ: چھری کو تیز کرنا۔ الخردلُ اللسانَ: رائی کا زبان میں چرپراہٹ پیدا کرنا۔ حَمُزَ ـُ حَمازَةً: سخت ہونا۔ — الشرابُ: شراب کا چرپراہٹ ڈالنے والا ہونا، ترش ہونا۔ الحَمِيز: سخت۔ ذکی، تیز فہم، ظریف۔ حامِزُ الفؤاد: خوش مزاج، خوش طبع، ظریف۔

○ حَمَزَ ـِ حَمْزًا: زبان کو چبھنا، لگنا، جلانا۔

حمس: حَمَسَ ـُ حَمْسًاهُ: کو غضبناک کرنا۔ حَمَّسَ و اَحْمَسَ هُ: کو غضبناک کرنا، برانگیختہ کرنا۔ جوش دلانا۔ تَحَمَّسَ: کسی کام کے لئے جوش میں آنا۔ اِحْتَمَسَ: جوش میں آنا۔

۲۔ حَمِسَ ـَ حَمَسًا: مذہب یا لڑائی میں سخت ہونا، بہادر ہونا صفت: حَمِس — الوغیٰ: گھمسان کی لڑائی ہونا۔ — الامرُ: کام کا سخت ہونا۔ حَمُسَ ـُ حَماسَةً و حَمِسَ ـَ حَمَسًا: دلیر ہونا، بہادر ہونا۔ تَحَمَّسَ: سختی کرنا، نافرمانی کرنا۔ تَحامَسَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا۔ اِحْتَمَسَ القِرنان: حریفوں کا باہم جنگ کرنا، قتال کرنا، الحُمُس: سخت جگہیں۔ الحَماس (ن) درخت۔ عند العامة: سختی، مخالفت، جنگ۔ الحَماسَة: کسی امر میں شدت، شجاعت۔ الحَمِيس: بہادر، دلیر، سخت الاَحْمَس مونث حَمْساء جمع حُمْس و اَحامِس: مذہب یا جنگ میں سخت، شجاع۔ الاَحامِس والحُمْس من السنين: بہت سے سخت سال سنةٌ حَمْساء: سخت سال۔

۳۔ حَمَسَ ـُ حَمْسًا اللحمَ: گوشت بھونا۔ حَمَّسَ و اَحْمَسَ الدواءَ و نحوه: دوا وغیرہ کو نیم گرم کرنا، الحَمِيس: تنور۔ الحَمِيسَة (ط): بھونا ہوا کھانا۔

○ حَمِسَ ـَ حَمَسًا: شوق و سرگرمی سے کام کرنا، پر جوش ہونا، سرگرم ہونا، شائق ہونا، سرگرم و پر جوش ہو جانا ہیجان میں آنا، برانگیختہ ہونا، کٹر ہونا جوشیلا ہونا۔ تَحَمَّسَ: بمعنی حَمِسَ نیز تَحَمَّسَ في: میں بہت پر جوش و سرگرم ہونا۔ لِ: کی جوش اور ولولہ سے تائید کرنا، حمایت کرنا جوش و ولولہ سے کے حق میں بولنا، کی مکمل حمایت کرنا۔ حَمِس و اَحْمَس: پختہ، پکا، مخلص، سرگرم، پر جوش ثابت قدم، شائق، مختی، شوقین، سخت، شدید۔ حَماس و حَماسَة: جوش، ولولہ، گہری دلچسپی، غصہ، گرم جوشی، سرگرمی، لگن، دھن، تپش، شوق تعصب، جانفشانی۔ حَماسي: سرگرم، پر جوش، یکدم بھڑک اٹھنے والا، جوشیلا، متعصب، ہیجان خیز، برانگیختہ کرنے والا، سنسنی خیز، بجلی کی سی لہر دوڑا دینے والا۔ تَحَمُّس لِ: کے لئے پختہ شوق، سرگرمی یا جوش، ولولہ یا گہری دلچسپی، تعصب، مُتَحَمِّس: پر جوش، سرگرم، متعصب، گرم جوش، یکدم بھڑک اٹھنے والا، سرگرم حامی یا ہیرو جوشیلا، کٹر یا متعصب حمایتی، مذہبی جوش والا۔

حمش: ا۔ حَمَشَ ـُ حَمْشًاهُ: کو غضبناک کرنا، جوش دلانا۔ القومَ: کو غصہ سے چلانا، ہانکنا۔ ـِ حَمْشًا و حُمْشَةً و تَحَمَّشَ و اِحْتَمَشَ و اِسْتَحْمَشَ: غضبناک ہونا۔ حَمَّشَ هُ: کو غضبناک کرنا، جوش دلانا۔ اَحْمَشَ هُ: کو غضبناک کرنا۔

۲۔ حَمَشَ ـُ حَمْشًا الشيءَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ حَمَّشَ الشيءَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔

۳۔ حَمِشَ ـَ و حَمُشَ ـُ حُمُوشَةً تِ الساقُ: پنڈلی کا باریک ہونا حَمِشَ ـَ حَمَشًا و حَمْشًا الرجلُ: باریک پنڈلیوں والا ہونا۔ صفت حَمْشٌ و حَمِش و اَحْمَش جمع حِماش و حُمْش: کہا جاتا ہے: رجالٌ حِماشُ السوق: باریک پنڈلیوں والے مرد۔ ... باریک پنڈلیاں۔

۴۔ حَمَشَ الشحمَ: چربی کو اس قدر پگھلانا کہ جلنے کے قریب ہو جائے۔ اَحْمَشَ النارَ: آگ میں ایندھن ڈال کر اس کو بھڑکانا۔ — القدرَ: ہانڈی کے نیچے بہت ایندھن لگانا یہاں تک کہ ہانڈی جوش میں آ جائے۔ — الحربَ: جنگ بھڑکانا۔ الحَمِيش: پگھلی ہوئی چربی۔

○ حَمَشَ ـُ حَمْشًاهُ: کو ابھارنا، برانگیختہ کرنا، اشتعال دلانا، غصہ دلانا، برافروختہ کرنا ہیجان میں لانا، طیش میں لانا، غضبناک کرنا۔ حُمْشَة: تانت۔

حمص: ا۔ حَمَصَ ـُ حَمْصًا و حُمُوصًا الجرحُ: زخم کی سوجن اترنا صفت: حَمِيص۔ — الورمُ: سوجن اترنا۔ حَمَّصَ الدواءُ الجرحَ: دوا کا زخم کی سوجن اتارنا۔ — الحَبَّ: دانہ بھوننا۔ تَحَمَّصَ اللحمُ: گوشت کا خشک ہونا۔ الرجلُ: سمٹنا۔ اِنْحَمَصَ الورمُ: ورم کم ہونا۔ منه: سے سکڑنا، لاغر ہونا۔ الحِمِّص و الحِمَّص واحد حِمِّصَة و حِمَّصَة (ن): چنا۔ الحَمِيص: بھونا ہوا۔ المِحْمَصَة: دانے وغیرہ بھوننے کا آلہ۔

۲۔ حَمَصَ ـُ حَمْصًا و حُمُوصًا تِ الاُرْجُوحَةُ: جھولے کا ٹھہر جانا۔

۳۔ حَمَصَ ـُ حَمْصًا و حُمُوصًا تِ الدابَّةُ: جانور کا پسینہ سوکھ جانا۔

○ حَمَّصَ هُ: کو بھونا تلنا۔ حِمِص و حِمَّص و حُمَّص و حُمُّص (اسم جمع واحد) حِمِصَة و حِمَّصَة: مٹر، مٹر کے دانے۔

○ حِمص: وسطی شام کا ایک شہر۔

حمض: ا۔ حَمَضَ ـُ حَمْضًا: کھٹا ہونا۔ حَمْضًا و حُمُوضًا الجملُ: اونٹ کا نمکین و کڑوے پودے چرنا۔ حَمِضَ ـَ حَمَضًا و حَمُضَ ـُ حُمُوضَةً: کھٹا ہونا۔ حَمَّضَ و اَحْمَضَ الجملُ: اونٹ کا نمکین اور کڑوے پودے کھانا۔ — الشيءُ: کھٹا ہونا۔ — الشيءَ: کو کھٹا کرنا۔ — الابلَ: اونٹوں کو نمکین اور کڑوے پودے کھلانا۔ کہا جاتا ہے: حَمَّضَ لنا في القِرىٰ: اس نے ہماری تھوڑی مہمانی کی۔ اَحْمَضَ المكانُ: جگہ کا نمکین اور کڑوے درختوں والی ہونا، صفت: مُحْمِض۔ الحامِض (فا): کھٹا کہا جاتا ہے: هو حامِضُ الفؤاد: وہ بگڑے ہوئے اور خراب دل کا آدمی ہے۔ حامِضُ الرئتين: کڑوے سانس والا۔ الحامِضَة: حامض کا مونث (طب): معدہ میں کسی چیز کا خراب ہو جانا۔ الحَمْض واحد

حَمْضَة جمع حُمُوض (ز): نمکین اور کڑوا پودہ۔ والحامِض (ك): تیزاب، ترشہ (acid) الحوامض: کھٹی چیزیں حَمض او حامض الکبریت: گندھک کا تیزاب الحَمض النتریك: نائٹرک شورے کا تیزاب الحمض الکلوریدریك، کلورائڈ گیس۔ الحمض الستریك: ترنجی ترشہ (یا تیزاب) الحمض الخلیك او الاستیك: سرکہ کا تیزاب acetic acid الحُمَّاض او الأُقْصَلِیس (ن): کاسنی سے مشابہ پتے رکھنے والی ایک گھاس جو ترش اور کڑوی ہوتی ہے۔ - واحد حُمَّاضَة: کھٹی گھاس حُمَّاضُ الکَبَّاد: ترنج کا گودا۔ الحَمِیضَة: جمع حُمُض و المَحمَض و المُحمِض: نمکین اور کڑوے پودے بکثرت اگانے والی زمین۔ الحَمضِیَّات: لیموں کی طرح کے کھٹائی آمیز پودے۔ المُستَحمِض من اللبن: دیر میں جمنے والا دودھ۔

۲۔ حَمَضَ ـُ حَمضًا به: کی خواہش کرنا۔ أَحمَضَ تِ الجماعةُ: جماعت کا کسی دل خوش کن گفتگو یا تقریر میں لفاظی سے کام لینا۔ الحامِضَة: کسی چیز کی خواہش۔ الحَمضَة: کھانے کی خواہش۔ الاحماض: پسندیدہ بات میں لگنا۔

۳۔ حَمَضَ ـُ حَمضًا عنه: کو ناپسند کرنا؛ حَمَّضَ و أَحمَضَ الشیءَ عنه: کو سے پھیر دینا۔ تَحَمَّضَ الرجلُ: ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا۔ الحَمضَة: سنتے ہی کسی چیز سے نفرت۔ کہا جاتا ہے: فؤادٌ حَمِضٌ و نفسٌ حَمِضَة: سنتے ہی کسی چیز سے نفرت کرنے والا دل یا نفس۔ الاحماض: سنجیدگی سے تمسخر کی طرف منتقلی۔

○ حَمُضَ ـُ حُمُوضَةً: کھٹا ہونا یا ہو جانا۔ حَمَّضَ ہ: کو کھٹا کر دینا، تیزابی بنانا، ترش کرنا، فوٹو، فلم وغیرہ کو کیمیاوی مسالے سے دھونا، کو آکسیجن سے مرکب کرنا حَمض جمع أَحماض: ایسڈ، تیزاب، ترشی، ترشہ، حمض بَولِیّ: پیشاب کا تیزاب یا ترشہ uric ccid شجرٌ حَمضِیّ: ترنجی درخت، حَمضِیَة جمع حَمضِیات: ترنجی پھل۔ حُمُوضَة: کھٹائی، ترشی، تیزابیت، ترشیت، حموضت۔ مُوَلِّدُ الحُمُوضَة: آکسیجن oxygen حُمَّاض و حُمَیْض: چوکا، کھٹی سبزی، کھٹی گھاس، کھٹا ساگ۔ تَحمِیض: کھٹا کرنا، ترش بنانا، تیزابی بنانا، فوٹو، فلم وغیرہ کو کیمیاوی مسالے سے دھونا (development) اِحمَاض: ظریفانہ زبان، مذاقیہ گفتگو۔ حامض: کھٹا، ترش، تیزابی، ہلکی سی کھٹاس رکھنے والی چیز جمع حَوامِض: تیزاب، ترشی، ترشہ۔ حامضٌ کِبریتی: گندھک کا تیزاب (Sulphuric acid)۔ حامِضُ الفحم: تیزابِ فحمی (Carbonic acid)۔

حمط: حَمَطَ ـِ حَمْطًا ہ: کو چھیلنا، کا چھلکا اتارنا۔ حَمَطَ الکرمَ: انگور پر درخت سے سایہ کرنا۔ - الشیءَ: کو چھونا کرنا۔ - الرجلَ: کو خفیف سے مارنا۔ اسی سے یہ ضرب المثل ہے: اذا ضربت فلا تُحَمِّط: جب مارو تو اچھی طرح مارو۔ کیونکہ کم مارنا تادیب کا کام نہیں دیتا۔ الحَماطَة جمع حَماط و حَمائِط: حلق میں سوزش و جلن (ن) انجیر سے مشابہ ایک درخت۔ دل کا نقطہ۔ بعض کے نزدیک دل کا خون۔

حمق: ۱۔ حَمِقَ ـَ و حَمُقَ ـُ حُمقًا و حُمُقًا و حَماقَةً: بیوقوف ہونا صفت: أَحمَق مونث حَمقَاء جمع حُمُق و حُمْق و حَمقَی و حِماق و حَماقَی و حُماقَی۔ حَمَّقَ ہ: کو بیوقوف کہنا۔ أَحمَقَ ہ: کو بیوقوف پانا۔ - تِ المرأةُ: عورت کا بیوقوف بچہ جننا۔ صفت: مُحمِق و مُحمِقَة، حامَقَ ہ: کو بیوقوفی پر مدد دینا۔ تَحامَقَ و تَحَمَّقَ: بیوقوف بننا۔ اِنحَمَقَ: بیوقوف ہونا۔ اِستَحمَقَ: بے وقوف ہونا۔ - ہ: کو بیوقوف سمجھنا، بیوقوف شمار کرنا۔ الحُمق (مص): بیوقوفی، شراب۔ الحَمِق: بیوقوف۔ الحَمُوقَة و الحُمَیقَة و الأُحموقة: بہت بیوقوف۔ المُحمِقات: وہ راتیں جن میں چاندنی شروع سے آخر تک رہے۔

۲۔ حَمِقَ ـَ حَمَقًا: ناراض یا غضبناک ہونا برہم ہونا (عام زبان میں)۔

۳۔ اِنحَمَقَ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ - تِ السوقُ: بازار کا ٹھنڈا پڑنا۔ کساد بازاری ہونا۔

۴۔ الحَمِق: کم داڑھی والا۔ نومةُ الحُمق: ظہر کے بعد کی نیند۔ الحُماق و الحَماق و الحَمَقیق و الحُمَیقَی و الحُمَیقاء (طب): چیچک کے مشابہ ایک بیماری، آکڑا کاکڑا۔ البَقلَةُ الحَمقاء و بَقلَةُ الحَمقاء: خرفہ کا ساگ۔

○ حَمِقَ ـَ و حَمُقَ ـُ حُمقًا و حَماقَةً: بیوقوف ہونا، احمق ہونا، سادہ لوح ہونا، ناراض ہونا، برہم ہو جانا حَمَّقَ و أَحمَقَ ہ: کو بیوقوف سمجھنا، کو بے زبان، بیوقوف، احمق خیال کرنا۔ تَحامَقَ: بیوقوف بن جانا۔ ــ: ناراض یا برہم ہو جانا۔ اِستحمق ہ: کو بے زبان یا بیوقوف خیال کرنا۔ حُمق: حماقت، بیوقوفی، سادہ لوحی احمقانہ حرکت۔ حَماقَة: بیوقوفی، حماقت، احمقانہ حرکت، سادہ لوحی، غصہ، غضب، طیش، قہر۔ حُماق: چیچک، أَحمَق مونث حَمقاء جمع حُمق و حُمُق و حَماقَی: بے زبان، بیوقوف، سادہ لوح، فاتر العقل، ناراض، برہم، غضبناک۔ حَمقان: بے زبان، بے وقوف، ناراض، برہم، غضبناک۔

حمل: ۱۔ حَمَلَ ـِ حَمْلًا و حُمْلانًا الشیءَ علی ظہرہ: کو پیٹھ پر اٹھانا۔ علی نفسہ فی السیر: چلنے میں مشقت برداشت کرنا۔ - فلانٌ الحقدَ علی فلان: دل میں کسی کے خلاف کینہ رکھنا۔ - عنہ: کے بارے میں بردبار ہونا۔ واحتَمَلَ ہ الحِملَ: کی بوجھ اٹھانے میں مدد کرنا۔ حَمَّلَ تَحمِیلًا و حِمّالًا ہ الشیءَ: سے کوئی چیز اٹھوانا، کو کوئی چیز اٹھانے کا مکلف بنانا۔ تَحَمَّلَ تَحَمُّلًا و تِحِمّالًا ہ: کو اٹھانا۔ - الامرَ: کو برداشت کرنا۔ - الرجلُ: کمر ہمت باندھنا، صبر کر لینا، برداشت کرنا۔ - القومُ: کوچ کرنا، تحامَلَ فی الامر و بالامر: تکلیف دہ بات اپنے ذمہ لینا۔ علی فلانٍ: پر ظلم کرنا، کو ناقابل برداشت کام کی تکلیف دینا۔ - الشیخُ فی مشیتہ: چلنے میں گراں بار ہونا۔ علی نفسہ: مشقت کے باوجود برداشت کرنا۔ اِحتَمَلَ الشیءَ: کو اٹھانا۔ الصنیعة: کسی نیک سلوک پر شکریہ ادا کرنا۔ - الامرَ: کو صبر سے برداشت کرنا۔ - ما کان منہ: کو معاف کرنا، سے درگزر کرنا، اِستَحمَلَ: اٹھانے پر قادر ہونا۔ فلانًا: کو اٹھانے کے لئے کہنا۔ الحِمل جمع أَحمال و حُمولَة: بوجھ، بار۔ واحد الحُمول: ہودج یا ہودج والے اونٹ۔ الحَمَل: بہت پانی والا بادل۔ الحُملَة و الحِملَة: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی۔ الحَملَة: ایک دفعہ کا بوجھ۔ الحامِلَة: انگور وغیرہ اٹھانے کی ٹوکری۔ (حی): کرگھے میں آر پار جانے والی لکڑی کا ٹکڑا جن پر دھاگوں کا مدار ہوتا ہے۔ حامِلةُ الطائرات (ع) طیارہ بردار جہاز aircrafl -carrier الحَوامل: پاؤں۔ الحَمّال جمع حُمُل: تاوان، خون بہا، الحَمالَة: خون بہا، تاوان۔ الحِمالَة جمع حَمائِل: تلوار لٹکانے کا تسمہ، قلی کا پیشہ، حِمالةُ البنطلون: پتلون کے گیلس۔ المَحمِل جمع مَحامِل: جس میں کوئی چیز اٹھائی جائے، ہودج۔ المِحمَل جمع مَحامِل: تلوار لٹکانے کا

تسمہ۔الحمِیل: اٹھایا ہوا، سیلاب کا لایا ہوا کوڑا کرکٹ، پھینکا ہوا بچہ جسے لوگ اٹھا کر پرورش کریں۔ الحَمِیلة جمع حمائِل: تلوار لٹکانے کا تسمہ۔ الحمیلة من المجاز: تھکاوٹ، بوجھ بار۔ کہا جاتا ہے: ھو حَمِیلَةٌ علینا: وہ ہم پر بار ہے۔ الحَمُول: بردبار، صابر۔ الحَمَّال: قلی، عام لوگ اسے العَتَّال کہتے ہیں۔ حمند العامة: جزدان، کتابیں اور کاغذات رکھنے کا تھیلا۔ اس کی فصیح عربی القِمَطْر ہے۔ الحَمُولة: باربرداری جانور۔ الحُمْلان: ہبہ کیا ہوا باربرداری کا جانور (خصوصاً)، سامان اٹھانے کی اجرت۔ المحمُول (مفع) "المحمول و الموضوع" عند المنطقیین: منطقیوں کی اصطلاح میں المحمول والموضوع نحویوں کی اصطلاح میں المُسْنَد و المسند الیه ہیں۔ چنانچہ جملہ زیدٌ کریمٌ میں زید موضوع اور کریم محمول ہے یعنی موضوع بمعنی مسند اور محمول بمعنی مسند الیہ ہے۔ الحامُولة جمع حَوَامِیل: شدید بارش کے وقت نالے میں اچھلتا ہوا پانی۔

۲۔ حَمَلَ - حَمْلاً و حُمْلاناً الغضبَ: غصہ ظاہر کرنا۔ اُحْتُمِلَ: غضبناک ہونا۔ لونُهُ: کا رنگ بدلنا۔

۳۔ حَمَلَ - حَمْلًا و حُمْلاناً هُ علی الامر: کو پر بھڑکانا، اکسانا۔ اُنْحَمَلَ علیه: پر اکسایا جانا۔

۴۔ حَمَلَ - حَمْلًا و حُمْلاناً الشیءَ علی الآخر: ایک چیز کا حکم دوسری پر لگانا۔

۵۔ حَمَلَ - حَمْلًا و حُمْلانات المرأةُ: عورت کا حاملہ ہونا۔ الشجرةُ: درخت کا بارآور ہونا۔ الحَمْل جمع حِمَال و اَحْمَال و حُمُول: پیٹ کا بچہ، درخت کا پھل۔ الحَامِل و الحَامِلَة من النساء: حاملہ عورت۔ الحَمِیل: (ماں کے) پیٹ کا بچہ۔

۶۔ حَمَلَ - حَمْلًا و حُمْلاناً القرآن: قرآن حفظ کرنا۔ العلمَ: علم کو روایت کرنا، نقل کرنا۔ حَمَلَةَ القرآن: قرآن کو حفظ کرنے والے۔ قرآن کی روایت کرنے والے۔

۷۔ حَمَلَ - حَمْلَةً فی الحرب علیهم: پر حملہ آور ہونا۔ الحَمْلَة (اع): جنگ کا حملہ۔

۸۔ حَمَلَ - حَمَالَةً به: کا ضامن ہونا، ذمہ دار ہونا۔ الحَمالَة: ضمانت۔ الحَمِیل: ضامن۔

۹۔ تَحامَلَ عنهُ: سے اعراض کرنا۔ - الیه: کی طرف متوجہ ہونا۔

۱۰۔ الحَمَل جمع حُمْلان و اَحْمَال (ح): بکری کا بچہ، بھیڑ یا دنبے کا بچہ۔ (فلک): موسم بہار، آسمان کے برجوں میں سے ایک برج۔ لِسانُ الحَمَل (ن) کیلا، کیلے کا درخت۔ محمُولُ البحر: سمندر کی نباتات۔ الحَمِیل: اجنبی، منہ بولا بیٹا۔ الحَوَامِل: قدم اور ہاتھ کے پٹھے۔

۱۱۔ حَمْلَقَ: آنکھیں کھول کر تیز نظر سے دیکھنا۔ حُمْلاق و حِمْلاق و حُمْلُوقُ العین: آنکھ کے پپوٹوں کا اندر کا حصہ۔

حَمَلَ - حَمْلاً ہ: کو اٹھانا، برداشت کرنا، کو لیجانے کے لئے اٹھانا، کو بار کر کے لیجانا، کو ہاتھ میں لینا، پکڑنا، کو ساتھ لیجانا، لینا، کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانا کی نقل و حمل کا انتظام کرنا۔ ۔ ہ ل/ الی: کو کے پاس لیجانا۔ - عن ہ: کے لئے، کی جگہ، کے بجائے کسی بوجھ کو اپنے ذمہ لینا۔ ۔ ہ عن: کا بوجھ اٹھانا، ذمہ لینا۔ عن ہ: کو سے چھٹکارا دلانا۔ ۔ ہ عن: بوجھ، شکایت وغیرہ کسی سے لینا۔ ۔ ہ ل: (احساس) کسی کے متعلق بڑھانا، ظاہر کرنا، کے متعلق احساس زندہ رکھنا، دل میں رکھنا۔ ۔ من: عورت کا کسی سے حاملہ ہونا۔ -: درخت کا پھلدار ہونا۔ ۔ ہ علی: کو پر اکسانا، سے کچھ کرانا۔ - علی رایه: کو اپنا ہم رائے بنانا، سے اپنی رائے منوالینا، کو اپنی رائے کا قائل کر لینا۔ علی: پر حملہ کرنا۔ حمل حملةً علی: پر حملہ آور ہونا۔ ۔ ہ: (کتاب) حفظ کرنا۔ - ہ علی: کو سے بیان کرنا، کا کسی سے ذکر کرنا، کو سے مربوط کرنا، کو سے لازم و ملزوم بنانا۔ ۔ ہ علی: کی اصل کا پتہ لگانا، کو سے منسوب کرنا، کو سے نسبت دینا، کو پر محمول کرنا کو کے باعث قرار دینا کسی لفظ کو گرامر کے طور پر دوسرے لفظ سے متفق کرنا۔ حَمَلَ فی نفسه: پریشانی محسوس کرنا، غمزدہ ہونا، پژمردہ ہونا۔ حَمَلَ علی نفسه: ضبط سے کام لینا۔ حَمَلَهُ علی مَحْمَلٍ: کو کے معنی میں لینا، کو کا معنی پہنانا۔ حَمَلَهُ علی غیر مَحْمَلِهِ: سے غلط مطلب لینا، کو غلط معنی پہنانا، کے متعلق غلط بیانی کرنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کے متعلق غلط تصور پیش کرنا۔ حَمَلَهُ مَحْمَلَ الجدّ: کو سنجیدگی سے لینا، کو اس کی ظاہری صورت میں لینا۔ حَمَّلَ هُ ہ: سے کچھ اٹھوانا، برداشت کروانا۔ ۔ ہ ہ: پر کچھ لادنا، پر بوجھ ڈالنا، کے کوئی کام سپرد کرنا، پر کام کا بوجھ ڈالنا، کو کوئی کام تفویض کرنا، پر کچھ عائد کرنا، کے گلے کچھ منڈھنا۔ تَحَمَّلَ ہ: (اخراجات وغیرہ) کو برداشت کرنا، اپنے ذمہ لینا، اپنے ہاتھ میں لینا، اٹھانا۔ ۔ ہ: (ذمہ داری) اٹھانا۔ ۔ ہ: ظاہر کرنا کہ وہ مشکل وقت کے دوران جاری رہنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کو برداشت کرنا، جھیلنا، کا بوجھ اٹھانا، کو اٹھائے رکھنا، اٹھانا، بھگتنا، سہنا، بھوگنا، گوارہ کرنا، (مشکلات) میں سے گزرنا، (تکلیفیں) برداشت کرنا، (کڑیاں) جھیلنا (مصیبت) اٹھانا، (نقصان) اٹھانا (مصیبت) میں پڑنا۔ ۔ ہ: کو برداشت کرنے کے قابل ہونا۔ -: روانہ ہونا۔ تَحامَلَ علی: پر سختی کرنا، سے برا برتاؤ کرنا، بدسلوکی کرنا، کے خلاف متعصب ہونا، کے خلاف مخالف فریق کا ساتھ دینا۔ -: بڑی کوشش سے اٹھنا۔ تَحامَلَ علی نفسه: مستعد ہونا، کمر ہمت باندھنا، ضبط سے کام لینا، ڈر دور کرنا۔ اِحْتَمَلَ ہ: کو اٹھانا، لیجانا، کھینچنا، گھسیٹنا، کو برداشت کرنا، سہنا جھیلنا، بھگتنا، بھوگنا، کی اجازت دینا، کو گوارہ کرنا، کو چپ چاپ مان لینا، پر رضامند ہونا، راضی ہونا، متفق ہونا، کے بارے میں صبر کا مظاہرہ کرنا، کے لئے گنجائش رکھنا، کے ممکن جائز یا قابل فہم ہونے کی طرف دلالت کرنا۔ یَحْتَمِلُ و یُحْتَمَلُ: یہ) گوارا ہے، قابل برداشت ہے، قابل فہم ہے، ممکن ہے۔ اغلب، بہت ممکن ہے، غالباً ہونے والا یا قابل یقین ہے۔ حَمْل: اٹھانا، برداشت کرنا، ترغیب، تحریض، پر آمادہ کرنا، حوصلہ افزائی، ہمت افزائی۔ حَمْل: بھیجنا، مسافر یا اسباب لیجانا، کی نقل و حمل، ذریعہ نقل و حمل سواری، باربرداری کا کرایہ، بندر برداری، ڈھلوائی، خرچہ بار برداری۔ جمع اَحْمال و حِمال: حمل، حاملہ ہونا، جنین، رحم مادر کا بچہ۔ عدمُ الحمل: بانجھ پن۔ حِمْل وَحُمْل جمع اَحْمال: بوجھ، بار، بار جہاز، جہاز کا سامان، جہاز پر لادنے کا مال اسباب۔ حمل حی: تجارتی وزن، مسافر اور سامان کا وزن۔ حمل میّت: بھاری بوجھ جس کو اٹھانا یا ہلانا مشکل ہو۔ حمل متُوازن: توازن، پاسنگ۔ حَمَل جمع حُملان و اَحْمال: بھیڑ کا بچہ، برہ، عشائے ربانی کی روٹی، برج حمل، میکھ۔ حملة علی: پر حملہ۔ حملة جمع حملات: حملہ، جارحانہ کارروائی، جارحانہ رویہ، مہم، فوجی مہم، فوجی مہم سرانجام دینے والا فوجی دستہ۔ حملة تادیبیة: تعزیری یا عقوبتی مہم۔ حملة صَحَافِیَّة: صحافتی مہم۔ حملة اِسْتِکْشَافِیه: دیکھ بھال کا ریڈ۔ حملة مِیکانِیکِیّة: موٹروں سے لیس مہم پر بھیجا جانے والا فوجی۔ حملة انتخابیة: انتخابی مہم۔ حَمَلی جمع حَمَلِیة: ماشکی سقہ۔ حَمِیل: بن ماں باپ کا بچہ، گرا پڑا بچہ، ضامن، گارنٹی دینے والا۔ حملة علی: پر بوجھ، مکمل طور پر کسی کا دست نگر۔ متوسل

حَمُول: صبر سے برداشت کرنے والا، نرم مزاج والا
حَمَّال جمع حَمَّالون: قلی، بارکش، بار بردار۔
حِمَالَة: قلی یا بارکش بار بردار کا کام اور پیشہ
حَمَالَة: شہتیر، سہارا، پایہ، بنیاد، نیو، کھمبا، ستون، کنگس۔ حَمَّالة للصدر: انگیا۔ حُمُولَة جمع حُمُولات: وسعت، ظرف، سمائی گنجائش، وزن کی حد، وزن کی سمائی یا گنجائش جہاز کی باربرداری کی گنجائش، جہاز میں مال کا فی ٹن کرایہ، قلی یا باربردار کی اجرت، سامان لیجانے کے لئے جہاز کا محصول۔ بار برداری کا کرایہ، بھاڑہ۔ مَحْمَل: دیکھو۔ حَمَل
اخذ شيئًا على مَحْمَل الجدّ: کو سنجیدگی سے لینا۔ مَحْمِل، مَحْمَل) جمع مَحَامِل: اونٹ پر بار پالکی، ڈولی۔ مَحْمِل: حج کے موقعہ پر مسلمان حکمرانوں کی طرف سے مکہ معظمہ کو بھیجی جانے والی بچی ہوئی ڈولی جو ان کی آزادی کی علامت ہوتی تھی۔
تَحْمِيل: بوجھ ڈالنا، بوجھ، جھنجھٹ بوجھ لادنا، جہاز وغیرہ پر سامان بار کرنا، مال لادنا، جہاز کے ذریعے بھیجنا، جہاز پر رکھنا، جہاز کی لدائی، سامان جو جہاز پر چڑھایا جائے۔ جہاز کے ذریعے بھیجا ہوا مال۔
تَحْمِيلَة جمع تَحَامِيل: (طب) بتی، شیافہ۔
تَحَامُل: تعصب، جانبداری طرف داری، بدظنی، بدگمانی، عصبیت، میلان خاطر، عدم روا داری۔
اِحْتِمَال: برداشت کرنا، جھیلنا، اعتراض نہ ہونے کے باعث مفروضہ اجازت رواداری، امکان غالب، امکان، صعب الاحتمال جسے برداشت کرنا مشکل ہو، سخت بار ڈالنے والا۔ حَامِل جمع حَمَلَة: قلی، بارکش، بار بردار، (نوٹ چیک وغیرہ کا) حامل صاحب (رتبہ) تمغہ، اعزاز کا) حامل (شناختی کارڈ، ڈپلوما، ڈگری وغیرہ کا) حامل کسی چیز کو رکھنے پکڑنے رکھنے کا آلہ، ہولڈر، شکنجہ، پٹی، کڑا، گھنڈی تکمہ، پیچ بٹن، زپ، پن، سہارا، پکڑ گرفت۔ - علی: کے خلاف لڑنے والا۔ جمع حَوَامِل: حاملہ (عورت)۔
حَامِلُ البريد: ہرکارہ پیغام رساں۔ حَمَلَةُ الأَسْهُم: پتی دار، ساجھی، شریک حصے دار (لوگ)
حَمَلَةُ الاقلام: لکھنے والے، قانون دار۔ حامل کلام اللہ قرآن مجید کا حافظ۔ تَيَّارٌ حَامِلٌ: حامل برقی رو۔
موجات حاملة: حامل لہریں (برقی) حَامِلَة جمع حامِلَات: لیجانے والا آلہ، بردار۔ حامِلة خريطة: نقشہ کا کیس mapcase۔ حاملة طائرات: طیارہ بردار (جہاز) مَحْمُول: اٹھایا ہوا، برداشت کیا ہوا، قابل برداشت سامان کا وزن، جہاز کی کھیپ، بار جہاز

جہاز یا ہوائی جہاز سے جانے والا سامان جہاز کی بار برداری کی گنجائش، مسند، خبر وصف، صفت (منطق میں)۔ محمول عليه: موضوع (منطق میں)۔
مشاة محمولة: موٹروں سے لیس پیدل فوج یا پیادہ فوج۔ جنود مَحْمُولُون جَوًّا: ہوا بردار یا ہوائی جہاز میں جانے والی فوج۔ مُحَمَّل ب: سے لدا ہوا، جس پہ کسی چیز کا بوجھ لادا گیا ہو سے زیر بار۔
مُحْتَمَل: قابل برداشت، اغلب، ممکن۔
○ حَمْلَق حَمْلَقَةً في / ب: کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا گھورنا۔
○ حِملايا: ہمالیہ (پہاڑ)، کوہ ہمالیہ۔
حمو: ١۔ الحَمْو والحَمَا والحَمُو و الحَمْءُ تثنيه حَمْوَان و حَمَان جمع احْمَاء: شوہر کا باپ بیوی کا باپ۔ خاوند کے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص۔ (اس کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ حالت نصبی میں الف کے ساتھ حالت جری میں یاء کے ساتھ آتا ہے اور ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں: هذا حموه، رايتُ حماه و مررت بحميه: یہ اس کا سسر ہے، میں نے اس کے سسر کو دیکھا۔ میں اس کے سسر کے پاس سے گزرا۔
حَمَاةُ جمع حَمَوات الرجل: ساس (بیوی کی ماں)۔ - المرأة: ساس (خاوند کی ماں)۔
۲۔ حَمُوُ الشمس: سورج کی گرمی۔ الحَمَاة او البَطَّة: پنڈلی کا عضلہ۔ حُمُوَّةُ الالم: درد کی شدت۔
حمى: ١۔ حَمَى ـِ حَمْيًا و حِمْيَةً و حِمَايَةً و مَحْمِيَةً الشيءَ من الناس: لوگوں سے کوئی چیز روکنا۔ بچانا۔ حَمِيَ ـَ حَمِيَّةً و مَحْمِيَةً من الشيء: کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانا۔
حَامَى مُحَاماةً و حِمَاءً عنه: سے بچانا، کا دفاع کرنا۔ أَحْمَى إِحْمَاءً المكانَ: جگہ کو محفوظ کرنا یا پانا۔ تَحَامَى هُ: سے بچنا، پرہیز کرنا۔ اِحْتَمَى منه: سے بچنا۔ الحِمَى تثنيه حِمَيَان: جس کو بچایا جائے جس کا دفاع کیا جائے۔ الحِماء: بچائی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے۔ هو حماء لك: یہ تمہاری طرف سے فدیہ ہے۔ الحَمِيَّة: محفوظ کی ہوئی چیز۔ الحَمِيَّة: غیرت، نفرت، نخوۃ، مروت۔ الحَامِي جمع حُمَاة و حَامِيَة: شیر، کتا۔ الحَمِيّ: وہ شخص جو ظلم برداشت نہ کر سکے، محفوظ کی ہوئی چیز۔ الحَامِيَة جمع حَوَامٍ: الحامي کا مونث، بہت حمایت کرنے والا (تا مبالغہ کی ہے) حفاظت کرنے والا گروہ۔ المُحَامِي: وکیل (عدالت میں دفاع کرنے والا) المُحَاماة:

وکالت۔
۲۔ حَمَى ـِ حِمْيَةً المريضَ ما يضره و عما يضره (طب): بیمار کو مضر اشیاء سے پرہیز کرانا۔ تَحَمَّى و احْتَمَى المريضُ: بیمار کا پرہیز کرنا، رکنا۔
الحِمْيَة: پرہیز، کہا جاتا ہے: المعدة بيت الداء و الحِمْيَةُ رأس كلِّ دواء: معدہ بیماری کا گھر ہے۔ اور پرہیز دوا کی اصل ہے۔ الحَمِيّ: بیمار جس کو پرہیز کرایا گیا ہو۔
۳۔ حَمِيَ ـَ حَمْيًا و حُمِيًّا وَحُمُوَّاتِ النارُ: آگ کا بہت تیز گرم ہو جانا۔ احْمَى إِحْمَاءً الحديد: لوہے کو بہت گرم کرنا۔ حَمْيُ الشمس: سورج کی گرمی آفتاب کی تمازت۔ الحُمَّى جمع حُمَّيَات (طب) بخار۔
۴۔ حَمِيَ ـَ حَمْيًا و حُمِيًّا و حُمُوًّا عليه: بہت ناراض ہونا۔ حُمَةُ البرد: سردی کی شدت۔ الحُمَيَّا: غصہ کی شدت، اور اس کا ابتدائی حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ لاتكلمه في حُمَيَّا غضبه: اس کے غصہ کی شدت میں یا اس کے ابتدائی جوش میں اس سے کلام نہ کرو۔ فلانٌ شديد الحُمَيَّا: فلاں شخص شریف النفس اور خود دار ہے)۔ شراب کا جوش شراب۔ من كل شيء: ہر چیز کی تیزی اور اس کا ابتدائی جوش۔
۵۔ حَامِي مُحَاماةً و حِماءً على الضيف: عمدہ طریقے سے میزبانی کرنا۔
۶۔ اِحْمَوْمَى اِحْمِيمَاءً: رات اور بادل کی طرح سیاہ ہونا۔
۷۔ الحُمَة جمع حُمَاة و حُمًى: زہر، ڈنک (طب): بیماری کے عوامل۔
○ حَمِيَ ـَ حموا و حميًا: گرم ہونا، گرم ہو جانا (دھات کا) دمکنا، تمتمانا۔ دفعۃً جل اٹھنا، آگ بھبھوکا ہو جانا۔ - على: پر سخت طیش میں آنا، پرغضبناک ہونا، برہم ہونا۔ حمي الوطيس: شدید لڑائی شروع ہو جانا۔ حَمَّى هُ: کو گرم کرنا تپانا۔ دھات کو تپا کر دمکانا۔ (ستوو) جلانا، کو جلانا، روشن کرنا، آگ دکھانا، سرخ کرنا، بھڑکانا، جوش میں لانا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ - : نہانا، غسل کرنا، اَحْمَى هُ: کو گرم کرنا، تپانا۔ حَمْو: گرمی، حرارت۔ حمو الفيل: گرمی دانے، سرخ باد۔ حُمُو: گرمی، حرارت، حُمَة جمع حُمَات و حُمًى: ڈنک، نیش، نیش زن جانور، ڈنک مارنے والا جانور، کانٹا، خار، سول، ابھار (پودوں کا)۔ حَمِي: گرم، گرما گرم، جوشیلا، مشتعل،

برانگیختہ، پرجوش۔ حَمِیَّۃ: سرگرمی، جوش، ولولہ، گرمجوشی، لگن، دھن پرجوش ولولہ، جوش وخروش، جذبہ، مذہبی جنون تعصب، مذہبی جوش، کٹرپن، تشدد، زبردستی شدت، تندی، تیزی، عشق تحمل، صبر، طیش، تاؤ غصہ، شوق، لت، غضب، قہر جوش یا ہیجان کی گرمی، خفگی، مزاج، طبیعت، سرشت، خصلت، ضمیر، سجاؤ۔ الحمیۃ القومیۃ: جنگجویانہ وطن دوستی یا وطن پرستی۔ حَمَیَّا: گرمی، حرارت، جوش، ہیجان، ہلچل، جنبش، اشتعال اضطراب، پریشانی، شورش، سرگرمی، جوش وخروش، ولولہ، جوش، جذبہ، شعلہ، حرارت عشق، شدت، سختی، سرگرمی، تندی، غضب، قہر، غصہ، طیش، جنگ میں جوش کی شدت، شراب۔ حَمَاوَۃ: گرمی، حرارت۔ مَحْمَی: آگ کی بھٹی، تنور، چولہا۔ سٹو۔ حام: گرم گرم کیا ہوا، خونخوار، خونریز، پرجوش، شدید، سخت (جنگ وغیرہ) پُرجوش، آتشیں، گرم، آتش مزاج، جوش انگیز۔

○ حَمَی ِ حَمْیًا و حِمَایَۃً ہ / ہ من: کی سے حفاظت کرنا، کو سے بچانا، کو سے بچانے کی کوشش کرنا، کو سے پناہ دینا۔ — المریض ہ: مریض کو (نقصان دہ خوراک) نہ دینا، کو پرہیزی غذا کھانے کا حکم دینا۔ حَامَی من: کا دفاع کرنا، وکیل کا کسی کا عدالت میں دفاع کرنا۔ —عن: کی تائید کرنا، کی حفاظت کرنا، کو پناہ دینا، کے نصب العین میں شامل ہونا، کے لئے جدوجہد کرنا۔ تَحَامَی ہ: سے احتراز کرنا، بچنا، پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، کنی کترانا، گریز کرنا۔ اِحْتَمَی ہ ہ: اپنے آپ کی سے حفاظت کرنا۔ — ب: کے ساتھ اپنا دفاع کرنا، بچاؤ کرنا۔ —ب/ عندمن: کے ہاں سے پناہ ڈھونڈنا، حفاظت کا طلبگار ہونا، حفاظت چاہنا۔ حِمَی: حفاظت، دفاع، جائے پناہ ملجا، مامن۔ حِمْیَۃ: جس کا دفاع کیا جائے، پرہیزی غذا، طبی طور پر مقرر کردہ غذا۔ حَمایۃ جمع حَمایات: حفاظت، سرپرستی، کفالت، ضمانت، اہتمام، زیر حمایت علاقہ، محروس ملک، مُحَاماۃ: دفاع (عدالت میں)، قانونی پیشہ وکالت، قانون کی پریکٹس۔ ھَیْئَۃُ المحاماۃ: بار (bar) جماعت وکلاء۔ اِحْتِمَاء: پناہ، حمایت یا حفاظت طلب کرنا، ڈھونڈنا پناہ، حمایت، حفاظت۔ حَامٍ جمع حُمَاۃ: حفاظت کرنے والا، دفاع کرنے والا، سرپرست۔ الدولۃ الحامیۃ: کسی محروسہ ریاست کی حفاظت کرنے والی طاقت۔ حامیۃ جمع حَامِیات: سرپرست حفاظت کرنے والی، قلعہ کی فوج، قلعہ یا شہر کی حفاظتی فوج، گریژن (garison)۔

مَحْمِیّ ب: سے، کے ذریعہ حفاظت کیا گیا، محروس ملک کے ماتحت، زیر حمایت علاقہ کے ماتحت۔ زیر حمایت علاقہ کے درجہ کا۔ منطقہ مَحْمِیَّۃ: زیر حمایت (علاقہ، ملک)۔ مَحْمِیَّۃ جمع مَحْمِیات: زیر حمایت علاقہ، محروس ملک۔ مُحَام جمع مُحَامُون: وکیل صفائی، مدعا علیہ کا وکیل، بیرسٹر، اٹارنی، ایڈووکیٹ۔ مُحَامِیۃ: خاتون وکیل۔ مُحْتَمٍ: حفاظت ڈھونڈ والا، متوسل، زیر نگرانی یا زیر حمایت شخص، زیر حمایت علاقہ کے تحت، زیر حمایت علاقہ کے درجہ کا۔

حنّ: ۱۔ حَنَّ ِ حَنِینًا: خوشی یا غم سے آواز نکالنا۔ —تِ القوس: کمان سے آواز نکلنا۔ اَحَنَّ الصوت: کمان سے آواز نکالنا۔ الحَنّان من السهام: آواز نکالنے والا تیر۔

۲۔ حَنَّ ِ حنینًا الیہ: کا مشتاق ہونا۔ تَحَانَّ: مشتاق ہونا۔ اِسْتَحَنَّ الشوقُ فلانًا: شوق کا کسی کو خوش کرنا۔ الیہ: کا مشتاق ہونا۔ الحَانّ (فا): خوش کن۔ الحَنّان: مشتاق۔

۳۔ حَنَّ ِ حَنَّۃً و حَنَانًا علیہ: پرمہربان اور شفیق ورحیم ہونا۔ صفت: حَنُون، تَحَنَّنَ علیہ: پررحم کرنا، مہربانی کرنا۔ الحَنَان: رحمت (کہا جاتا ہے: حَنَانَیكَ و حَنَانَكَ یا ربِّ: اے پروردگار تیری رحمت کی التجا کرتا ہوں) رزق، برکت، دل کی نرمی۔ کہا جاتا ہے: حَنَانَ اللّٰہِ: پناہ بخدا۔ (یہ مفعول مطلق ہے۔ اس کا عامل محذوف ہے۔ بمعنی: رحم فرما۔ حَنَانَیْكَ: تثنیہ کے لفظ کے ساتھ۔ اس معنی میں ہے کہ مجھ پر یکے بعد دیگرے اور رحمت در رحمت کر۔ الحَنَّان: رحمت کرنے والا، مہربان، اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ایک۔ الحنان: رحمت، مہربانی۔

۴۔ حَنَّ ُ حَنًّاہُ: کو پھیرنا، باز رکھنا۔ آپ کہتے ہیں: حُنَّ عَنِّی شرّك: اپنے شر کو مجھ سے باز رکھو۔

۵۔ حَنَّ الشجرُ: درخت کا شگوفے نکالنا۔

۶۔ اَحَنَّ الرجلُ: غلطی کرنا۔

۷۔ الحِنّ: جنوں کا ایک گروہ۔ الحَانَّۃ: اونٹنی، کہا جاتا ہے: مالہ حانّۃ ولا آنّۃ: اس کے پاس نہ اونٹنی ہے نہ بکری، طریقٌ حَنَّانٌ: واضح اور کھلا راستہ۔ الحِنان (ن): مہندی۔

○ حَنَّ ِ حَنِینًا الی: کا آرزومند ہونا، متمنی ہونا، کا مشتاق ہونا، کی آرزو کرنا، کی آرزو میں مرنا، کی التجا یا التماس کرنا، کا متمنی یا ملتمس ہونا، کی طلب یا خواہش

کرنا۔ حَنَّۃً و حَنانًا علی: کے لئے رحمدلی یا شفقت محسوس کرنا، ہمدردی یا محبت، چاہ، لگن یا پیار محسوس کرنا، سے ہمدردی رکھنا سے اظہار ہمدردی کرنا، کی غمگساری کرنا، سے ہمدردی کرنا کے لئے رحم یا ترس محسوس کرنا۔ پر رحم کھانا، ترس کھانا، پر رحم کرنا۔ حَنَّنَ قَلْبَہٗ: کے دل کو متاثر کرنا، کے دل پر اثر کرنا، کے دل کو محبت، شفقت سے بھر دینا۔ —: درخت کا شگوفے نکالنا، درخت کا پھلنا، بہار پر آنا، تَحَنَّنَ علی: کے لئے ہمدردی محسوس کرنا، رحم، محبت، شفقت، پیار محسوس کرنا، کی غمگساری کرنا، سے ہمدردی کرنا۔ —: نرم ہونا، محبت آمیز ہونا، شفقت آمیز، دلدادہ، شیدائی، محبت والا یا پیار کرنے والا ہونا۔ حَنّۃ: ہمدردی، رحم، ترس، دیا، خدا ترسی، تلطف، رافت، مہربان صورت یا پہلو، بہتری، بھلائی، منفعت۔ حَنَان: ہمدردی، محبت، شفقت، نرمی، رحم، ترس دیا، خدا ترسی، تلطف، رافت۔ حَنَانَیك: مدد کرو، رحم کرو۔ حَنَانَۃ: رحم، ترس، تلطف، رافت دیا، خدا ترسی۔ حنین: چاہ، اشتیاق، آرزو، تمنا، خواہش، شوق، یاد وطن کا عارضہ، وطن کی خواہش جس کی شدت ایک مرض کی صورت اختیار کرلے۔ حَنُون: محبت کرنے والا، نرم دل، شفقت آمیز، دلدادہ، شیدائی، محبت والا، پیار کرنے والا، رحم دل، دردمند، مہربان، غفور، رحیم کریم، نرم، شریف، موثر، دلگداز، رقت انگیز، پراثر، پردرد، جس پر ترس آئے۔ حَنّان: شفقت آمیز، دلداہ، شیدائی، محبت ولا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، نرم ترس کھانے والا، دیالو، رحم دل، خدا ترس، ہمدرد، شریک غم۔ تِحْنَان: محبت، پیار، انس، وابستگی، شدید الفت پرجوش محبت، جانثاری، نمک حلالی، وفاداری، خیر خواہی۔ تَحَنُّن: نرمی، ہمدردی، محبت، شفقت، چاہ، لگن پیار۔

حنا: حَنَأَ ـَ حَنًّا المکانُ: جگہ کا سرسبز ہونا۔ صفت: حانیٔ: کہا جاتا ہے۔ اخضر حانیٔ: بہت سرسبز۔ یہاں حانیٔ تاکید کے لئے آیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے۔ ابیض یقق و احمر ناصع۔ حَنَّأَ تَحْنِیئًا و تَحْنِئَۃً ہُ: کو مہندی سے رنگنا۔ تَحَنَّأَ بالحِنّاء: مہندی سے رنگا جانا۔ الحِنّاء واحد حِنّاءۃ جمع حُنّآن (ن): مہندی۔ ابو الحناء (ح): ایک سرخ سینے والا چھوٹا پرندہ۔

○ تَمْرُ الحِنّاء: حناء کا پودہ، مہندی کا پودہ۔

حنب: ۱۔ حَنِبَ ـَ حَنَبًا الشیخُ: بوڑھے کا کبڑا ہونا۔ حَنَّبَ الشیخُ: بوڑھے شخص کا کبڑا ہونا۔ —ہُ الکِبَرُ:

کو بڑھاپے کا جھکا دینا۔ تَحَنَّبَ الشیخُ: بوڑھے کا کبڑا ہونا۔ —علیه: پر مہربانی کرنا۔

۲۔ حَنْبَرَ حَنْبَرَةً البردُ: ٹھنڈ یا سردی کا سخت ہونا الحَنْبَر: پستہ قد۔

۳۔ حَنْبَلَ: لوبیا کھانا، موزہ یا پرانی پوستین پہننا۔ تَحَنْبَلَ: سر جھکانا۔ الحَنْبَلُ (ن): لوبیا۔ الحَنْبَل: موزہ، پرانی پوستین، پستہ قد موٹے پیٹ والا۔ الحَنابِل من الاوتار: مضبوط اور موٹا تانت۔ الحِنْبال: پر گوشت، بہت بولنے والا۔

○ حَنْبَلِيّ: حنبلی، مذہب ابن حنبل کا یا کے متعلق، اخلاقی معاملات میں سخت گیرانہ تنگ نظری پر مبنی، مذہبی معاملات میں سخت۔ جمع حَنابلة: حنبلی مذہب کے پیروکار۔

حنت: الحانوت جمع حَوانِيت نسبت کے لئے۔ حانی و حانَوِيّ (مذکر و مونث): شراب بیچنے والے کی دکان، دکان (عموماً)۔

حنث: ۱۔ حَنِثَ ـَ حِنثًا: باطل کی طرف مائل ہونا۔ — فی یمینه: قسم توڑنا۔ اَحْنَثَ هُ: کی قسم تڑوانا، سے قسم تڑوانا۔ تَحَنَّثَ مِن کذا: گناہ سے بچنا، توبہ کرنا۔ الحِنْثُ جمع اَحْناث (مص): گناہ، بلوغت (کہا جاتا ہے: بلغ الغلامُ الحِنْثَ: لڑکا بالغ ہو گیا) گناہ کے مواخذہ کا وقت۔ المَحانِث مفرد مَحْنِث: گناہ کے مواقع۔

۲۔ تَحَنَّثَ: گناہ سے نفرت کرنا، گناہ چھوڑ دینا، عبادت کرنا، بتوں سے الگ ہونا اور ان کی عبادت ترک کر دینا۔

○ تَحَنَّثَ: پارسا ہونا، زاہد ہونا، مذہبی تزکیہ ڈھونڈنا، گناہ سے بچنا، گناہ سے نفرت کرنا، گناہ کو برا خیال کرنا۔ حِنْث جمع اَحْناث: دروغ حلفی، جھوٹا حلف، گناہ۔

حنج: ۱۔ حَنَجَ ـِ حَنْجًا هُ: کو جھکانا۔ —الحبلَ: رسی مضبوط بٹنا۔ اَحْنَجَ الشیءُ: جھکنا۔ — الشیءَ: کو جھکانا۔ الخبرَ: خبر کو چھپانا۔ — الکلامَ: کلام کا رخ پھیر کر اسے ناقابل فہم بنانا۔ الرجلُ: چلتے ہوئے جلدی سے پیچھے دیکھنا۔ اِحْتَنَجَ الشیءُ: جھکنا۔

۲۔ حَنَجَ ـَ حَنَجاتٍ حاجةٌ: حاجت و ضرورت پیش آنا۔

۳۔ حَنْجَرَتِ العینُ: آنکھ کا اندر کو دھنسنا۔ — هُ: کو ذبح کرنا۔ الحَنْجَرة جمع حَناجِر (ع ا): نرخرہ، سانس کی نالی۔ الحُنْجُور جمع حَناجِیر: نرخرہ، سانس کی نالی، شیشی، ٹوکری۔ الحُنْجُور جمع حَناجِیر: دوات، مرہم کی شیشی۔ (عام زبان میں)۔

○ حُنْجَرة جمع حَناجِر و حُنْجُور جمع حناجیر: ٹینٹوا، نرخرہ، حلقوم، آواز نکالنے کا عضو، گلا۔

○ حَنْجَلَ: گھوڑے کا جست کرنا، اچھلنا کودنا، کلول کرنا، کدکڑی مارنا، کلیل کرنا، اچھل کود کرنا، کھیلنا، کودنا۔ تَحَنْجَلَ: رقص کرنا، کلیل کرنا کدکڑی مارنا، کھیلنا، کودنا، ناچنا، اچھلتے پھرنا خراماں خراماں پھرنا، کودنا پھاندنا۔

حنح: حَنْحَنَ البندقُ او الجوزُ و نحو هما: اخروٹ وغیرہ کی گری کا خراب ہونا۔ (اس کے لئے فصیح لفظ حَمِتَ ہے)۔ — علیه: پر ترس کھانا سے ہمدردی کرنا۔ کے بارے میں تشویش کرنا، کے لئے خوف کھانا۔

حند: ۱۔ حَنْدَسَ و تَحَنْدَسَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الحِنْدِس جمع حَنادِس: سخت تاریک رات، تاریکی۔ الحَنادِس: ہر ماہ کی تین آخری تاریک راتیں۔

۲۔ الحِنْدَقُوق و الحَنْدَقُوق و الحَنْدَقُوقی و الحِنْدَ قوقی: ایک پاگل سا دراز قامت آدمی (ن): ایک قسم کی سبزی یا تین پتی بوٹی جسے الذُرَق بھی کہا جاتا ہے۔ کھیتوں اور چراگاہوں میں اگتی ہے۔

○ حَنْدَقُوق: زرد میٹھی تر فل۔ تپیا۔

حنذ: ۱۔ حَنَذَ ـِ حَنْذًا و تَحْناذًا اللحمَ: گوشت بھونا، پکانا۔ بھنا ہوا یا پکایا ہوا گوشت حنیذ کہلاتا ہے۔ — الفرسَ: گھوڑے کو پسینہ لانے کے لئے دوڑانا۔ صفت مفعولی: مَحْنُوذ و حَنِیذ۔ — تهُ الشمسُ: سورج کا کسی کو جلانا، جھلس دینا۔ اَحْنَذَ اللحمَ: گوشت کو پکانا۔ اِستَحْنَذَ: دھوپ میں لیٹ کر اور اپنے اوپر کپڑے لے کر پسینہ لانے کی کوشش کرنا۔ الحُنْذُة: سخت حرارت، حَناذِ (مبنی برکسر) سورج۔ الحَنِیذ: گرم پانی، سر دھونے کی خوشبودار چیز۔ الحِنْذِیذ: بہت پسینہ والا گھوڑا یا انسان۔

۲۔ اَحْنَذَ: شراب میں زیادہ یا تھوڑا پانی ملانا۔

حنر: حَنَرَ ـِ حَنْرًا الحَنِیرةَ: محراب بنانا دیوار میں خم دار جگہ بنانا۔ الحَنِیرة: محراب، طاق میں خم دار جگہ، کمان، ہر خمدار اور ٹیڑھی چیز۔ دھنیے کی کمان۔ ج حَنِیر و حَنائِر (ب)۔

حنس: حَنِسَ ـَ حَنَسًا: معرکہ کے درمیان بہادری سے ڈٹا رہنا۔ الحُنُس: خدا پرست پرہیزگار لوگ۔

حنش: حَنَشَ ـِ حَنْشًا هُ: کو نکال دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دینا۔ الصیدَ: شکار کرنا۔ — ت الحیّةُ فلانًا: سانپ کا کسی کو ڈسنا۔ اُحْنِشَ هُ: کا شکار کرنا۔ — هُ عن الامر: سے کام کو جلدی کرانا۔ الحَنَش جمع اَحْناش و حُنْشان (ح): ایک قسم کا سانپ۔ ہر وہ جانور جس کا سر سانپ کے مشابہ ہو، مثلاً گرگٹ، چھپکلی وغیرہ۔

حنط: ۱۔ حَنَطَ ـُ حُنُوطًا و اَحْنَطَ الزرعُ: کھیتی کی کٹائی کا وقت آنا۔ المحانط (فا): بہت گیہوں والا، گیہوں والا۔ الحِنْطة جمع حِنَط (ن): گیہوں۔ حِنْطةٌ سوداء (ن): سیاہ گیہوں۔ الحِنْطِیّ: بہت گیہوں کھانے والا، پھولا ہوا۔ حِنطِیُّ اللون: گندم گوں۔ الحَنّاطِی: گندم فروش۔

۲۔ حَنَطَ ـُ حُنُوطًا و اَحْنَطَ الشجرُ: درخت کے پھل پکنا۔ الحانِط: پکے ہوئے پھل والا درخت یا پودا یا جڑی بوٹی۔

۳۔ حَنَطَ ـِ حَنَطًا الجلدُ: جلد کا سرخ ہونا صفت: حانِط۔ الحانِط: گہرا سرخ۔ کہا جاتا ہے۔ اَحْمَر حانِط: گہرا سرخ۔

۴۔ حَنَّطَ و اَحْنَطَ المیتَ: مردہ کو خوشبو لگا کر خراب ہونے سے بچانا۔ تَحَنَّطَ: مردہ پر خوشبو ملنا۔ الحُنُوط و الحِناط: مردہ کی لاش میں بھری جانے والی خوشبو تا کہ عرصہ تک گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ الحِناطة: مردوں پر خوشبو لگانے کا پیشہ۔ الحَنّاط: مردوں کو حنوط کرنے والا۔

۵۔ اِستَحْنَطَ: مرنے پر دلیری دکھانا۔

۶۔ الاَحْنَط: بڑی اور گھنی داڑھی والا۔

۷۔ الحِنطِیّ: وہ شخص جس کی خوراک گیہوں ہو، پستہ قد۔ الحِنطَأْو و الحِنطَأوة: پستہ قد بڑے پیٹ والا۔

حَنَّطَ ہ: مردہ جسم میں مسالے اور خوشبو بھرنا تا کہ لاش عرصہ تک محفوظ رہے، لاش کو مسالے لگا کر حفاظت سے رکھنا، کو مسالہ اور خوشبو لگانا۔ — ہ: لاش میں مسالہ بھرنا۔ حِناطة: مردہ جسم میں مسالے اور خوشبو بھرنا۔ تَحَنَّطَ: ممی بنایا ہونا، مسالہ لگا کر لاش کو محفوظ کرنا۔ مُحَنَّط: ممی بنایا ہوا، مومیایا ہوا، مسالہ لگا کر محفوظ کیا ہوا۔ حِنْطة: گیہوں۔ عربة الحَنْطور: وکٹوریہ، ہلکی بگھی۔

حنظ: ۱۔ الحُنْظُباء و الحُنْظُباء (ح): ٹڈی، نر گبریلا۔ الحِنظاب: بدخو پست قد۔ الحُنْظُوب: موٹی اور بھدی عورت۔

۲۔ حَنْظَلَتِ الشجرةُ: درخت کے پھل کا کڑوا ہو جانا۔ الحَنْظَل (ن): اندرائن۔ اَمَرُّ من الحنظل:

اندرائن سے زیادہ کڑوا۔

حنف ا۔حَنَفَ ـِ حَنَفًا: جھکنا۔ ـ رِجْلَهُ: پاؤں ٹیڑھا کرنا۔حَنِفَ ـَ حَنَفًا و حَنُفَ ـُ حَنَافَةً: ٹیڑھے پاؤں والا ہونا صفت: اَحْنَف مؤنث حَنْفَاء۔ حَنَّفَ ہ: کو ٹیڑھے پاؤں والا کر دینا۔ تَحَنَّفَ: حنفی ہونا یا حنفیت کا کام کرنا۔ (کہا جاتا ہے: شافعی۔ تحنف شافعی حنفی ہوگیا) ـ الیہ: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔الحَنِیف جمع حُنَفَاء: اسلام سے متمسک یا اسلام کی طرف صحیح میلان رکھنے والا، جو دین ابراہیمی پر قائم ہو، موحد ہو، سیدھا۔الحُنَفَاء: کمان۔ الحَنَفِیّ جمع اَحْنَاف و حَنَفِیَّة: مذہب امام ابوحنیفہ کا پیرو۔حنفی المذہب امام۔الحَنِیفِیَّة فی الاسلام او الدین: اسلام یا دین کی طرف میلان اور اس سے تمسک۔

۲۔الحَنْفَاء: استرہ، گرگٹ، کچھوا۔الحَنَفِیَّة (حی): حوض کی ٹونٹی۔

۳۔الحُنْفُش و الحِنْفِیش جمع حَنَافِش و حَنَافِیش (ح): ایک قسم کا زہریلا سانپ موٹے سر باریک گردن والا جو غصہ میں آتا ہے تو گردن کی رگیں پھلا لیتا ہے۔

حَنَفَ ـ حَنَفًا: پہلو کی جانب مڑنا یا جھکنا۔حَنِیف جمع حُنَفَاء: سچا مومن، صحیح العقیدہ، غلط عقائد سے متنفر اور سچے دین کا ماننے والا۔سچا (دین) الدین الحنیف: سچا اسلامی دین۔ الحنیفة السَّمْحَاء: سچا اسلامی دین۔حَنِفِیّ: (مسیحیت میں) کافر، ملحد، غیر اہل کتاب، بت پرست؟ حنفی: دیکھو حنفیة) جمع حنفیون۔حَنَفِیَّة: (مسیحیت میں) کفر، الحاد، (غیر اہل کتاب کی دنیا)، حنفی مذہب جس کے بانی امام ابوحنیفہ ہیں) جمع حَنَفِیات: (شراب کے پیپے کی) ٹونٹی (کسی بھی ظرف کی) ٹونٹی۔ بازار میں لگا ہوا پانی کا نل۔الحَنِیفِیَّة: سچا (اسلامی) دین، اَحْنَف: بگڑے ہوئے پاؤں والا، ٹیڑھے پاؤں والا۔

حنق: ا۔حَنِقَ ـَ حَنَقًا منه و علیه: پر سخت ناراض ہونا صفت: حَنِق و حَنِیق جمع حُنُق۔ اَحْنَقَ ہُ: کو غضبناک کرنا۔ ـ الرجلُ: سخت کینہ رکھنا۔الحَنَق و الحَنِق: سخت غصہ۔

۲۔ اَحْنَقَ الدابةُ: جانور کو دبلا کرنا۔اِحْتَنَقَ: موٹا ہونا۔الحُنُق و المَحَانِیق من الابل: موٹے اونٹ۔

ت حَنِقَ ـ حَنَقًا: غصہ ہونا، پاگل ہونا، ازخود رفتہ ہونا، برہم ہونا، غضبناک ہونا۔ ـ من / علی: سے پریشان ہونا، برانگیختہ ہونا، برہم ہونا بھڑکنا، آگ بگولہ ہونا، جھلایا ہوا ہونا، بے حد خفا ہونا، آزردہ ہونا، کشیدہ خاطر ہونا، رنجیدہ ہونا، شاکی ہونا۔اَحْنَقَ ہ: کو غضب آلود کرنا، غصہ دلانا، بھڑکانا، اشتعال دلانا، مشتعل کرنا، طیش میں لانا، غضبناک کرنا، کا ناک میں دم کرنا، کا قافیہ تنگ کرنا، کو برانگیختہ کرنا، برہم کرنا، آگ بگولہ کرنا، خفا کرنا، پریشان کرنا۔حَنَق: غضب، قہر، غصہ، طیش، تاؤ، برہمی، خفگی، ناراضگی، غیظ، خشم، ناراضی، برانگیختگی، اشتعال بیر، آزردگی، بغض، عناد، کینہ، عداوت۔حَنِق: ازخود رفتہ، تندوتیز، غضبناک، آشفتہ، برہم، پاگل، ناراض، آزردہ، کشیدہ خاطر، رنجیدہ، تلخ، تلخ کیا ہوا، ناک میں دم کیا ہوا، قافیہ تنگ کیا ہوا، پریشان، برانگیختہ، برہم، بھڑکا ہوا، آگ بگولہ، جھلایا ہوا، بے حد خفا۔حَانِق: ازخود رفتہ، تندوتیز، غضبناک، آشفتہ، برہم، پاگل، ناراض، تلخ، آزردہ، کشیدہ خاطر، رنجیدہ، تلخ کیا ہوا، پریشان، برانگیختہ، برہم، بھڑکا ہوا، آگ بگولہ، جھلایا ہوا، بے حد خفا۔

حانق علی الحیاة: زندگی سے اکتایا ہوا، بیزار پست ہمت، مایوس، دل شکستہ، شکستہ خاطر، رنجیدہ، آزردہ، اداس حانق علی النساء: زن بیزار، عورت سے نفرت کرنے والا۔مُحْنَق: غضب آلود کیا ہوا، بھڑکایا ہوا، اشتعال دلایا ہوا، مشتعل کیا ہوا، طیش میں لایا ہوا غضبناک کیا ہوا، غصہ دلایا ہوا۔ تلخ کیا ہوا، تلخ، ناراض، برانگیختہ کیا ہوا، برہم کیا ہوا، آگ بگولہ کیا ہوا، آزردہ، کشیدہ خاطر، رنجیدہ۔

حنک: ا۔حَنَكَ ـُ حَنْكًا الشیءَ: کو سمجھنا کو مضبوط کرنا۔ ـحَنْكًا و حَنَكًا و اَحْنَكَ و اِحْتَنَكَ الدهرُ الرجلَ: زمانہ کے تجربات وامور کا انسان کو دانا و حکیم بنا دینا صفت مفعولی: حَنِیك جمع حُنُك۔ حَنَّكَ الصبیَّ: بچہ کو مہذب بنانا۔ ـ الدهرُ الرجلَ: زمانہ کے تجربات و امور کا انسان کو دانا و حکیم بنا دینا۔ الحُنْك و الحِنْك و الحُنْكَة: تجربہ۔الحُنُك مونث: حُنْكَة: عقل مند آدمی جس کو زمانہ نے تجربہ کار بنا دیا ہو۔المُحَنَّك: وہ تجربہ کار جس کو واقعات زمانہ نے باخبر اور دانا بنا دیا ہو۔

۲۔حَنَكَ ـُ حَنْكًا: چبا کر نرم کرنا۔ و اِحْتَنَكَ الفرسَ: گھوڑے کے منہ میں رسی دینا۔حَنَّكَ: چبا کر نرم کرنا۔ ـت القابلةُ الطفلَ: دائی کا دودھ پینے سے پہلے بچہ کا گلا روغن بادام اور انار کے پانی وغیرہ سے ملنا۔اسی سے ہے: تحنیك المیت: پگڑی کو میت کی ٹھوڑی کے نیچے سے لاکر باندھنا۔تَحَنَّكَ فی الكلام: گفتگو میں جزئیات کا خیال رکھنے والا ہونا، سخت محتاط ہونا، بہت زیادہ غور و خوض سے کام لینے والا ہونا۔الحَنَك جمع اَحْنَاك (ع ا): تالو، نیچے کا جبڑا، ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ۔الحِنَاك جمع حُنُك و المِحْنَك: لگام کی رسی۔

۳۔اِحْتَنَكَ ہ: پر غالب ہونا۔ ـ الجرادُ الارضَ: ٹڈی کا زمین کے سبزہ کو کھا کر صاف کر جانا۔اِسْتَحْنَكَ: کم خوراک ہونے کے بعد بہت کھانے لگنا۔

۴۔الحَنَك واحد حَنَكَة: چھوٹے ٹیلے جن کے پتھر نرم و سفید ہوں۔لوگوں کی وہ جماعت جو چراگاہ کی تلاش میں کسی جگہ جائے۔حَنَكُ جمع اَحْنَاكُ الغراب: کوے کی چونچ یا اس کی سیاہی۔کہا جاتا ہے: اَسْوَد من حَنَكِ الغراب: کوے کی چونچ سے زیادہ کالا۔ الحَانِك: سخت سیاہ۔کہا جاتا ہے: اسود حانك: سخت سیاہ۔

۵۔الحَنْكَلِیس (ح): ایک قسم کی مچھلی جس کے لئے فصیح عربی الجِرّیّ ہے۔

ت حَنَكَ ـِ حَنَكًا و حَنَّكَ و اَحْنَكَ ہ: (قسمت، زمانہ یا عمر کا) کسی کو آزمائشوں سے تجربہ کار یا دنیا کے دھندوں کا ماہر بنا دینا۔ ـ: تفصیل سے بیان کرنا۔حَنَك جمع اَحْنَاك: تالو حَنَكِیّ: تالو کا۔حُنْك و حِنْك و حُنْكَة: دنیاوی تجربہ، تجربہ کے ذریعہ حاصل شدہ دنیاوی دانشمندی، دنیوی تجربہ مُحَنَّك: تجربہ کار، دنیا کے دھندوں کا ماہر، دنیاوی معاملات کا تجربہ رکھنے والا۔مُحَنَّك مُبَنَّك: سمجھدار، ہوشمند، زیرک، ہوشیار طباع، حاضر جواب، فیشن ایبل۔

حنا: ا۔حَنَا ـُ حَنْوًا الشیءَ: کو موڑنا، پیچ دینا۔ ـ الحِنْیَةَ: کمان بنانا۔حَنَی ـِ حِنَایَةً الشیءَ: کو موڑنا، پیچ دینا۔حَنَّی تَحْنِیَةً الشیءَ: کو موڑنا۔ تَحَنَّی: ٹیڑھا ہونا، مڑنا۔الحِنْو والحَنْو جمع اَحْنَاء و حُنِیّ و حِنِیّ: ہر وہ حصہ بدن جس میں کجی ہو جیسے پسلی، ہر ٹیڑھی لکڑی۔الحَنِیَّة جمع حَنَایَا و حَنِیّ: کمان (ب) محراب۔حَنِیَّةُ الکنیسة (ب): کلیسہ کے ہیکل کے اوپر شروع میں محراب۔ المَحْنِیَة و المَحْنُوة والمَحْنَاة جمع مَحَانٍ من الوادی: وادی کا موڑ۔الحانیة جمع حَوَانٍ و الحانات و الحانوت: دکان، الحَانُوِیّ: دوکاندار، الحَانِی: دکاندار۔الحَوَانِی (ع ا): ہر دو جانب سب سے لمبی پسلیاں۔المُنْحَنَی: وادی کا موڑ۔الحانِیَة: الحانی کا مونث۔شراب بیچنے والے۔الاَحْنَی مونث حَنْوَاء: کبڑا۔

۲۔ حَنَا ـُ حُنُوًّا و اَحْنَی علیه: کی طرف مڑنا، جھکنا۔

تَحَنَّى علیه: پر مہربانی کرنا شفقت کرنا۔ الأحْنَى: ٹیڑھا تر، شفیق تر: کہا جاتا ہے۔ فلان احنی الناس ضُلُوعًا علیك: فلاں شخص تم پر سب لوگوں سے زیادہ مہربان ہے۔ هو اَحْنَى علیك من قلب ام: وہ تجھ پر ماں کے دل سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔

۳۔ الحِنْو من الشیء: چیز کا پہلو۔ من السرج: زین کا اگلا اور پچھلا حصہ۔ اَحْنَاءُ الأُمُورِ: پیچیدہ باتیں۔

○ حَنَا ُ و حَنَى ِ حَنْوًا و حَنًى: جھکنا، مڑنا، پھرنا، خمیدہ ہونا، بٹنا، بل کھاتے ہوئے جانا، میں پیچ و خم ہونا۔ علی / الی کی طرف جھکنا، مائل ہونا، سے رغبت ہونا۔ — علی پر افسوس وغیرہ محسوس کرنا، سے ہمدردی رکھنا، سے اظہار ہمدردی کرنا، کی غمگساری کرنا، سے ہمدردی کرنا، پر رحم کھانا، ترس کھانا، پر رحم آنا۔ — ہ: کو جھکانا، موڑنا، خم کرنا، ٹیڑھا کرنا، لچکانا، اَحْنَى ہ: کو جھکانا، ٹیڑھا کرنا۔ — راسہ: اپنا سر جھکانا۔ — علی: سے ہمدردی کرنا کے درد میں شریک ہونا، سے اظہار ہمدردی کرنا، پر رحم کھانا، ترس کھانا، پر رحم آنا۔ اِنْحَنَى جھکنا مڑنا، پھرنا، بل کھانا، سڑک وغیرہ کا چکر دار ہونا، پیچ دار ہونا، چکر کھاتے ہوئے جانا۔ — عن: سے مڑنا، انحراف کرنا تجاوز کرنا، گریز کرنا، پھرنا، ہٹ جانا۔ — ل: کو آداب کہنا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ — علی / فوق: پر جھکنا۔ — الی: کی طرف جھکنا۔ — علی: شوق یا سرگرمی سے اپنے آپ کو کسی کے لئے وقف کرنا، نذر کرنا، مخصوص کرنا۔ — علی: کو دل میں رکھنا، پر قابو پانا۔ ان ضُلُوعِی لا تنحنی علی ضِغْنٍ: میرے دل میں کوئی تلخی (بغض، کینہ) نہیں، میں کوئی آزردگی محسوس نہیں کرتا۔ حَنْو: جھکنا، جھکانا، موڑ، جھکاؤ، انحراف، خمیدگی، خم، جھونک، لچک، مڑا ہوا ہونا، خمیدہ ہونا، ٹیڑھا کرنا، لچکانا خم کرنا، بل دینا، بٹنا، بل کھانا، بل کھاتے ہوئے آگے بڑھنے کی حرکت، چکر، گردش، موڑ، پھیر۔ حِنْو جمع اَحْنَاء: موڑ، خم، پیچ، کجی، چکر، نیازمندی، سلام بندگی تسلیمات، پھیر، انحراف، گردش پیچ پلٹا، رسی، بل، خط منحنی، کجی، پیچ، پیچ و خم، نشیب و فراز، ہیئت، مسافت نقش ونگار، صورت، شکل، احناء: پسلیاں۔ بَیْنَ اَحْنَاءِ ها: اس (خاتون) کے سینہ میں۔ حُنُوّ: ہمدردی، رحم، ترس، نرمی، محبت، شفقت، چاہ، لگن، پیار، حَنِی: جھکاؤ، موڑ، انحراف، خم کرنا، موڑنا، جھکانا، خمیدگی، خم، جھونک، لچک، جھکنا، جھکا ہوا ہونا، گولائی، بل دینا، حُنُیَّة: موڑنا، پھیرنا، اعوجاج، خط منحنی، چکر، موڑ، پلٹا۔ حَنِیَة جمع حَنَایا: محراب، کسی چیز خصوصاً سڑک کی سطح پر چھوٹا سا اوپر کی طرف خماؤ۔ خمیدگی، گولائی۔ فی حنایا صدرہ: کے سینہ میں۔ فی حنایا نفسہ: کے دل میں، اس کے دل کی گہرائی میں۔ حِنَایة: خمیدگی، مڑنا، جھکنا، جھکانا، بٹنا، بل دینا، مروڑنا، موڑنا، پھیرنا۔ مَحْنًى جمع مَحَانٍ: خمیدگی، اعوجاج، خم، لچک موڑنا، پھیرنا، جھونک۔ انحناءۃ: نیازمندی، سلام، تسلیمات، جھک کر سلام کرنا۔ الحوانی: سب سے زیادہ لمبی پسلیاں، (مجازاً) سینہ۔ بِمِلْءِ حَوَانِیهم: (وہ اپنی پوری قوت سے (چلائے) مَحْنِی: جھکا ہوا، خمیدہ ٹیڑھا، پیچ دار موڑ والا۔ مُنْحَنٍ: جھکا ہوا، مڑا ہوا، ٹیڑھا، بل دیا ہوا، مروڑا ہوا، جھکا ہوا، سر تسلیم خم کیا ہوا۔ مُنْحَنًى جمع مُنْحَنَات: جھکاؤ۔ جھونک، خمیدگی، لچک، گولائی، موڑ، خماؤ، خم، کجروی، کجی، انحراف، چکر، گردش، موڑ، پلٹا، انقلاب، پیچ، زاویہ، رخنہ، شگاف، ڈھلان، نشیب، سڑک کی خمیدگی، حانوت جمع حوانیت: سٹور، دکان، شراب کی دکان۔ حَانُوتِی جمع حَانُوتِیَة: لاش کو غسل دینے والا، مردہ کو نہلانے والا، تجہیز و تکفین کرنے والا غسال، کفن دوز، تابوت بردار، گورکن۔

○ حَوَّاء: حواء، اماں حواء۔

حاب: ا۔ حَابَ ُ حَوْبًا و حُوبًا و حَوْبَةً و حَابًا و حِیَابَةً بکذا: کا گناہگار ہونا۔ اَحْوَبَ اِحْوَابًا: گناہ کی طرف مائل ہونا۔ تَحَوَّب: گناہ سے بچنا۔ الحَوْب و الحُوب والحَوْبَة و الحُوبَة والحَاب والحابَة: گناہ۔ الأحْوَب مونث: حَوْبَاء: گناہگار۔

۲۔ تَحَوَّبَ منه: سے دردمند و غمزدہ ہونا۔ فی دُعائِه: دعا میں تضرع و زاری کرنا۔ اسْتَحْوَبَ: دردمند ہونا۔ الحَوْب والحُوب: غم، وحشت۔ الحَوْبَة: ماں باپ، بہن بیٹی، — و الحِیبَة: ماں کی طرف سے رشتہ داری۔ (کہا جاتا ہے: لی فیهم حَوْبَةٌ: میرا ان سے ننھیال کا رشتہ ہے) حاجت، حالت، کہا جاتا ہے: بات بِحَوْبَةِ سوء: اس نے بری حالت میں رات گزاری۔ الحُوبَة: ماں کی طرف سے رشتہ داری، کمزور آدمی، کہا جاتا ہے۔ اِنَّ لی حُوبَةً اعولها: میرے بال بچے ہیں جن کی میں کفالت کرتا ہوں۔ اِنَّما فلانٌ حُوبَة: فلاں شخص کے پاس نہ تو بھلائی ہے نہ برائی۔ الحَوْبَاء جمع حَوْبَاوات: نفس، روح۔

○ تَحَوَّب: گناہ سے اجتناب کرنا، پارسا زندگی گزارنا۔ — من: سے باز رہنا، الگ رہنا، پرہیز کرنا۔ حَوْبَة: گناہ، جرم، تقصیر، بدعنوانی، ظلم، خطا، قصور، فعل بد، برا کام، مجرمانہ فعل، زیادتی، زبردستی، دست اندازی، حقوق کی پامالی، ستم اندھیر۔ حَوْبَاء: نفس، روح۔

حات: حَاتَ ُ حَوْتًا و حَوَتَانًا الطیرُ او الوحش علی الشیء: پرندہ یا وحشی جانور کا کسی چیز پر منڈلانا یا اس کے گرد چکر کاٹنا۔ حَاوَتَ ہُ: کو دھوکا دینا۔ — ہ عن کذا: کی سے مدافعت کرنا۔ الحُوت جمع حِیتَان و اَحْوَات و حِوَتَة (ح): مچھلی (ح): بڑی مچھلی (فلک): آسمان کے ایک برج کا نام۔

○ حُوت جمع حِیتَان و اَحْوَات: مچھلی، وہیل Whale (سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی)، مچھلیاں، برج حوت میں بارہواں نشان۔ حوت سلیمان: سامن مچھلی۔

حاث: ا۔ اَحَاثَ اِحَاثَةً الارضَ: زمین کھود کر مٹی بکھیرنا، الٹ پلٹ کرنا۔ اِسْتَحَاثَ اِسْتَحَاثَةً الارض: زمین کھود کر اس میں پائی جانے والی چیزیں نکالنا۔ الشیءَ: کو نکالنا۔ عِلْم المُسْتَحَاثَات: زمین پر زندگی کی تاریخ کے رہنما کے طور پر آثار متحجرہ کا مطالعہ۔

۲۔ اَحَاثَ اِحَاثَةً الشیءَ: کو جدا جدا کرنا، متفرق کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ترکهم حَوْثَ بَوْثَ او حَیْثَ بَیْثَ او حاثِ باثِ او حَوْثًا بَوْثًا: میں نے ان کو متفرق چھوڑا۔

۳۔ الحَوْثَاء: موٹی عورت، فربہ اندام عورت (ع ا): جگر اور جگر کے اردگرد کے حصے۔

حاج: ا۔ حَاجَ ُ حَوْجًا: محتاج ہونا۔ اَحْوَجَ الیه: کا محتاج ہونا۔ — ہُ: کو محتاج کرنا، یا بنانا۔ تَحَوَّجَ اپنی حاجت طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ تَحَوَّجَ اپنی حاجت طلب کرنا، کہا جاتا ہے۔ خَرَجَ فلانٌ یَتَحَوَّجُ: فلاں شخص نے نکل کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں، اِحْتَاجَ الیه: کا محتاج ہونا۔ الحَاجَة جمع حَاجٌ و حِوَج و حَاجَات و حَوَائِج (آخری جمع کا لفظ حائجۃ کے اندازہ پر ہے): ضرورت۔ (کہا جاتا ہے: حاجَةٌ حائجةٌ: اشد ضرورت) سوال۔ الحَوْجَاء: حاجت، ضرورت، اس سے ہے ما کان فی نفسه حوجاء ولا لوجاء (اور تصغیر کے ساتھ) حُوَیْجاء ولا لُوَیْجَاء: اس کے دل میں کوئی حاجت نہیں تھی۔ نیز کہا جاتا ہے: کلّمتُه فمارَدَّ حَوْجَاء ولا لَوْجَاء: میں نے اس سے گفتگو کی تو اس نے جواب میں اچھا یا

براکوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا۔ المَحَاوِیج محتاج لوگ۔

۲۔ حَوَّجَ بِهٖ عن الشيء: کوکسی چیز سے ہٹانا، باز رکھنا۔

۳۔ الحاج (ن): ایک قسم کا کانٹا، (ن): ایک قسم کا ترش پودہ۔ الحَوْج: سلامتی، کہا جاتا ہے: حَوْجًالَكَ: تمہارے لئے سلامتی ہو۔ (یہ ایک محذوف فعل کی وجہ سے منصوب ہے اور اصل میں اس معنی میں ہے: أَسأَلُ حَوْجًا لَكَ۔

○ اَحْوَجَ الی: کوکی ضرورت ہونا، کا ضرورت مند ہونا، کی ضرورت رکھنا، کوکوئی چیز درکار ہونا۔ — ہ الی: کوکا ضرورت مند بنانا، کے لئے کوئی چیز ضروری بنانا، سے کا مطالبہ کرنا، کو پر مجبور کرنا، —ہ: کو مفلس کر دینا، کی طاقت یا خوبیاں ختم کر دینا، ما اَحْوَجَهُ الی: اسے اس کی کتنی ضرورت ہے، اسے کی کتنی فوری ضرورت ہے۔ اِحْتَاجَ الی: کوکی ضرورت ہونا، کا ضرورت مند ہونا، کی ضرورت رکھنا، کوئی چیز درکار ہونا (صلہ بھی یہی معنی دیتا ہے)۔

حَوْج: ضرورت، حاجت، کمی، قلت، احتیاج جس چیز کی کمی ہو، گھاٹا، بے نوائی، افلاس۔ حَاجَة جمع حَاجَات الـــی اب: کی ضرورت، احتیاج، —: ضرورت، مجبوری، ضرورتِ زندگی، احتیاج، حاجتمندی، بنیادی شرط، شرط اولین، قدرتی، جسمانی ضرورت، اہم ضرورت، ضرورت مند ہونا، غربت، مفلسی، محتاجی، بے نوائی، افلاس، ضرورت یا خواہش کی چیز، خواہش، آرزو، درخواست ضروری چیز، مطلوبہ شے، معاملہ، واسطہ کاروبار، کام، چیز، جمع حَــوَائِـج: ضروریات ضروریاتِ زندگی، روزمرہ کی چیزیں، اثرات، سامان، جائداد، سب کچھ، مال، چیز، شے، کپڑے، لباس۔ کَانَ فی حاجةٍ الی (ل): کا ضرورت مند ہونا، کوئی چیز درکار ہونا، کی ضرورت ہونا، کی طلب ہونا، کا تقاضا ہونا، کی حاجت ہونا، کی احتیاج رکھنا، لاحاجة الی (لِ): ضروری نہیں، مطلوب نہیں، کی کوئی ضرورت نہیں۔ لاحاجة لی به: مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ عِنْدَالحاجة: اگر یا جب ضروری ہوا، اگر ضرورت ہوئی، بضرورت ہونے پر۔ فی غیرِ حاجةٍ: کچھ زیادہ ہی، ضرورت سے زیادہ۔ مـابـه الحاجة: ضروری بنیادی عنصر یا چیز، لازمی جزء۔ مَـحَـلَ الـحـاجةِ: ضروری عبارت کا ٹکڑا، اہم نکات، خلاصہ، ملخص، جوہر، لب لباب، کسی مسئلہ کا انتہائی اہم یا مشکل حصہ، (بیان، تشریح کا) دلچسپ حصہ۔ سَدَّ حـاجتـه: کی ضروریات پوری کرنا، کی ضروریات یعنی خرچ چلانا۔

قَـضَـی حـاجتـه: کی خواہش پوری کرنا، قضی الحاجة: حوائج ضروریہ سے فارغ ہونا۔ حَاجیات: روزمرہ کی چیزیں عام استعمال یا گھر کے استعمال کی چیزیں، برتن، ضروری خدمات، ضروریات، لوازمات، لوازم، ضروریات زندگی۔ أَحْـوَج اِلـی: کی زیادہ احتیاج والا، کا زیادہ ضرورت مند، اَحْـوَج: زیادہ ضروری، احتيـــاج: طلب، ضرورت، مطلوبہ چیز، احتیاج، بنیادی شرط، شرط اولین جمع احتیاجات: ضرورتیں، ضروریات زندگی، ضروریات، لوازمات، لوازم۔ مَحَاوِيج واحد مُحْوِج: ضرورت مند، حاجتمند محتاج، غریب، مفلس، قلاش لوگ، مُحْتَاج اِلی: کا ضرورت مند، کا حاجتمند، مُحْتَاج: مفلس، قلاش، غریب۔ حَوْجَلَة جمع حَوَاجِل: چھوٹی شیشی۔

حاد: حَادَ ـُ حَوْداً عنه: سے ایک طرف ہٹنا حَاوَدَهُ بالزيارة: کے پاس جاتے رہنا۔ تْهُ الحُمَّی: کو بار بار بخاری آنا۔

○ حَادَ ـُ حوداً عن: سے ایک طرف ہٹنا دوسری سڑک پر جانے کے لئے کسی سڑک کو چھوڑنا۔ حَـوَّدَ: دوسری سڑک پر جانے کے لئے کسی سڑک کو چھوڑنا، موڑ مڑنا۔ حَوْدَة: موڑ، مڑنا۔

حاذ: حَاذَ ـُ حَوْذاهُ: کی حفاظت کرنا —الدابَّةَ: جانور کو تیز ہانکنا۔ — علی الشيء: کی نگہبانی کرنا۔ اَحْوَذَ الـدابَّةَ: جانور کو تیز ہانکنا۔ —السَیر: تیز چلنا۔ — ثوبَهُ: کپڑے سمیٹنا۔ — الشاعرُ قصیدتَهُ: شاعر کا عمدہ قصیدہ کہنا۔ اِسْتَحْوَذَ علیه: پر غلبہ اور قبضہ کرنا۔ الحُوْذِيّ: گھوڑوں اور جانوروں کو ہانکنے والا کوچوان، گاڑیبان، ڈرائیور، عام لوگ اسے العربجی کہتے ہیں۔ الأَحْـوَذِيّ: ہر کام میں پھرتیلا، ماہر، تیز دست۔

۲۔ الحَاذ واحد حاذة جمع آحاذ (ن): ایک قسم کا درخت (عام لوگ اسے الحوز کہتے ہیں) پیٹھ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ خفیف الحاذ: وہ کم مال والا ہے۔ خفیف الظهر بھی اس معنی میں ہے۔ الحواذ: دوری، جدائی۔

۳۔ الحَوْذَان (ن): ایک پھولدار بوٹی، جو معتدل حرارت رکھنے ممالک میں پائی جاتی ہے اس کے پھول خوبصورت اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔

○ حَـاذَ ـُ حَوْذًا ہ: جانوروں کو آگے بڑھانا، ایڑ لگانا، مہمیز کرنا۔ اَحْوَذ بمعنی حَاذَ۔ اِسْتَحْوَذ علی: پر (خصوصاً جذبات کا) زبردست اثر کرنا، کو زیر کرنا، پر قابو پانا، کو قابو میں لانا، کا بہتر حصہ لینا، پر مہارت حاصل کرنا، سے استفادہ کرنا، پر قبضہ کرنا، کو غصب کرنا۔ حُوْذِی: کوچوان، بگھی والا، گاڑی بان، ڈرائیور۔ حُوْزِیة: کوچبانی، گاڑی بانی، ڈرائیوری۔

حار: ۱۔ حَارَ ـُ حَوْراً و حُؤُوراً و مَحَاراً و مَحَارَةً: واپس ہونا، حَاوَرَ مُحَاوَرَةً و حِواراً و حَوَاراًہ: سے گفتگو کرنا، کو جواب دینا۔ اَحَارَ اِحَارَةً الجوابَ: جواب دینا۔ اسی سے ہے۔ لَمْ يُحِرْ جوابًا: اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا جاتا ہے: طحنتِ الطاحِنةُ فما اَحَارتْ شیئًا: چکی پیسنے والی نے چکی پیسی اور آٹا کچھ بھی نہیں دیا۔ تَحَاوَرَ القومُ: ایک دوسرے سے گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کو جواب دینا۔ اِسْتَحَارَهُ: سے گفتگو کرانا۔ المَحَارَة: واپسی، واپسی کی جگہ۔ المَحُوْرَة و المَحُورَة: جواب۔

۲۔ حَارَ ـُ حَورًا و حُؤُورًا و محاراً و مَحَارَةً: متحیر ہونا۔ الحَائِر (فا): مُتَحَيِّر، الحائِرَة: الحائر کا مؤنث۔

۳۔ حَارَ ـُ حَوْراً الثوبَ: کپڑے کو دھونا، سفید کرنا۔ حَوَّرَ الثوبَ: کپڑے کو سفید کرنا۔ اِحْوَرَّ اِحْوِرَارًا: سفید ہونا۔ الحَوَر جمع أَحْوار: سفید پتلے چمڑے، گائے۔ الحَوَارِيّ: دھوبی، نصیحت کرنے والا، قریبی دوست مددگار، بعض کے نزدیک انبیاء کا مددگار اسی سے ہے الحَوارِيُّون: حضرت عیسیٰ کے مددگار و انصار۔ الحَوَارِيَّة جمع حَوَارِيَّات: الحواری کا مؤنث، شہری عورت۔ الأَحْوَرِيّ: سفید، نرم، ملائم۔ الحُوَّارِيّ: سفید آٹا (طا) کھریا مٹی، ہر سفید کرنے والی چیز۔

۴۔ حَارَ ـُ حَوْرًا: کم ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ حَارَ بعدَمَا كارَ: وہ زیادتی کے بعد گھٹ گیا۔ — الشيءُ: کسی چیز کا نا قابل فروخت ہونا۔ حَوَّرَهُ اللّٰهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو محروم کرنا۔ ناکام کرنا، اَحَارَ البعيرَ: اونٹ کو ذبح کرنا۔ الحُور: کمی، نقصان۔ (کہا جاتا ہے: انه فی حُورٍ و بُورٍ: وہ نہ کسی صنعت ہی میں ہے اور نہ کسی آمدنی میں) ہلاکت۔ الحَوْرُ: نقصان کی، کہا جاتا ہے: هذا ہ و الحَوْرُ بعد الكَور: یہ زیادتی کے بعد نقصان ہے۔ نیز کہا جاتا ہے: مـا اصبتُ حَوْراً: میں نے کچھ نہیں پایا۔ الحائر لاغر، دبلا۔ الحائِرَة: الحائر کا مونث، کہا جاتا ہے۔ ماهو الاحائرة من الحوائر: اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ المحَارَة: کمی۔

۵۔ حَوِرَ ـَ حَوَرًاتِ العينُ: آنکھ کی سفیدی کا بہت سفید

اور سیاہی کا بہت سیاہ ہونا صفت: حَوْرَاء: ایسی آنکھوں والا اَحْوَر (جمع حُوْر) کہلاتا ہے۔ اِحْوَرَّ اِحْوِرَارًا ت العینُ: آنکھ کی سفیدی کا بہت سفید اور سیاہی کا بہت سیاہ ہونا۔

۶۔ حَوَّرَ القرصَ: روٹی کے پیڑے کو بیلن سے بیلنا۔ المِحْوَرَ جمع مَحَاوِر: روٹی پکانے والے کا بیلن۔ لوہے کا ٹکڑا جس پر چرخی گھومے (ی) چرخ کا دھرا، وہ ٹکڑا جس پر کوئی چیز گھومتی ہے (کہا جاتا ہے: قَلِقَتْ محاورُہ: اس کا معاملہ بگڑ گیا) ۵: سیدھی لکیر جو کرہ کے قطبوں کو ملائے۔ مِحْوَرَ الأرض (فلك): خط مستقیم جس کے گرد زمین گھومتی ہے۔ الحارة: مدار فضائی۔

۷۔ حَوَّرَ الادیمَ: کھال کو سرخ رنگ دینا۔ الحَوَرَ جمع اَحْوَار: سرخ رنگ سے رنگا ہوا چمڑا۔ المُحَوَّرَ: جس کا اندرونی حصہ سرخ رنگ کے چمڑے سے ڈھکا ہوا ہو۔ خُفٌّ مُحَوَّرَ: سرخ چمڑے کے استر والا موزہ۔

۸۔ اَحَارتِ النـاقةُ: اونٹنی کا دودھ پیتے بچہ والی ہونا۔ الحُوَار و الحِوار جمع اَحْوِرة وحِیران (ح): اونٹنی کا وہ بچہ جس کا دودھ ابھی چھڑایا نہ گیا ہو۔

۹۔ الحَورُ: گہرائی، ت، کہا جاتا ہے: بعیدُ الحَوْر: گہرائی تک پہنچنے والا عقلمند۔ الحَوَر (ن): ایک سیدھا سا بلند قامت سفید درخت جو بہت جلد بڑھتا ہے۔ الحارَة: وہ جگہ جہاں مکانات قریب قریب ہوں۔ محلہ، کہا جاتا ہے نزلنا فی حارة بنی فلان: ہم بنی فلاں کے محلہ میں فروکش ہوئے۔ الحَوْرَاء (ح) (علم الحشرات میں): کیڑے کے پہلے روپ اور مکمل کیڑے بننے کے درمیان کا عبوری عرصہ، اسے حوراء الفراشات خادرةً و حوراء النبّان و بعض الحشرات برقاً: ست پتنگوں کا عارضی دور اور مکھیوں کے ابتدائی روپ کا عبوری دور بھی کہا جاتا ہے۔ المَحَارَة: اونٹ کی تلی، تالو، سیپی یا سیپی کی ہم شکل ہڈی، مَحَارةُ الاذن: کان کا گڑھا۔

○ حَارَ ـُ حوراً الی: کی طرف واپس لوٹنا، پیچھے ہٹنا، تنگ کم ہونا۔ حَوَّرَ ہ / من: کو تبدیل کرنا، میں ترمیم کرنا، کو سیدھا راہ پر لانا، کی قلب ماہیت کرنا، دوبارہ تنظیم کرنا، کو بدل کر زم کرنا، کو بدلنا۔ — ہ: گندھا ہوا آٹا بیلنا، کسی چیز کو سفید کرنا، (کپڑے کا) رنگ اڑانا۔ حَاوَرَہ: سے بات چیت کرنا، باتیں کرنا۔ — بحث کرنا، بحث میں حصہ لینا، غور وفکر کرنا، مباحثہ منعقد کرنا، بحث میں اپنے نقطہ نگاہ پر زور دینا۔ اَحْوَرَ جواباً: جواب دینا، نفی میں جواب دینا۔ تَحَوَّرَ: تبدیل ہو جانا ترمیم ہو جانا، کایا پلٹ ہو جانا تنظیم نو ہونا، بدل جانا، بدل کر زم ہونا۔ تَحَاوَرَ: بحث جاری رکھنا۔ حَوَر: ایک سفید رنگ کا سیدھا بلند قامت درخت جو بہت جلد بڑھتا ہے۔ بکری کی بھورے یا بادامی رنگ کی کھال۔ نازبو، ریحان، آنکھ کے شفاف پردہ کی سفیدی اور پتلی کی جھلی کے سیاہ حصہ کے مابین واضح فرق۔ حَارَة جمع حارات: شہر کا ایک حصہ، اقلیتی باڑہ، گلی، کوچہ، بغلی گلی (جس کی جمع کبھی کبھار حَوَاری بھی آتی ہے)۔ حارة السدّ: بندگلی، اَحْوَر مونث حَوْرَاء جمع حُوْر: جس کی آنکھوں میں سفید و سیاہ کا نمایاں فرق ہو۔ سیاہ و سفید کے نمایاں فرق والی آنکھ، بہت سفید اور گہرا سیاہ۔ حَوَّارَة: چاک، کھریا مٹی کا ٹیلہ۔ حَوَارِی جمع حواریون: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد، مبلغ، معتقد یا پیرو۔ حُوَّرَی: کھریا مٹی کا ٹیلہ، چاک۔ حُوْرِیَة جمع حوریات و حُوْر: حور، پری، حسین عیش پرست عورت، بہشت کی کنواری، اپسرا، پہاڑ، جنگل یا سمندر کی دیوی یا زن خوبرو جمع حوریات: نوجوان ٹڈی۔ حورية الماء: جل پری، حَوْرَان: جنوب غربی شام اور شمالی اردن میں ایک پہاڑی سطح مرتفع۔ مِحْوَر جمع مَحَاوِر: بیلن، چول، محور، مدار مرکزی نقطہ، مرکز، گودہ، مغز، گری وسط، بیچ کا حصہ۔ دھرا۔ وہ فرضی خط جس پر کوئی چیز گردش کرتی ہے۔ گول لکڑی دھرے کا ڈنڈا، گول ڈنڈی۔ مَحَار: اسم جنس واحد مَحَارَة) کستورا مچھلیاں، گھونگے، جھینگے، کھپرے دار مچھلیاں، صدفی مچھلیاں بعض سیپیوں کی اندرونی چمکدار سطح، مَحَارَة: صدفہ، گھونگھا، جھینگا، گھونگھے، صدفہ یا جھینگے کا خول، کرنی، کھرلی۔ حِوار: بات چیت، گفتگو، مکالمہ، بحث، جھگڑا، تاریخ، (کسی کھیل کا) متن، دستی تحریر، تقریر وغیرہ کا مسودہ، ڈرامے کے کردار کے حصے کے الفاظ، (فلم کا) منظر نامہ، سیناریو۔ مُحَاوَرة: بات چیت، گفتگو، مکالمہ، بحث، نزاع تحاور: بحث، مباحثہ۔

حاز: ۱۔ حَازَ ـُ حَوزاً و حِیازَةً و اِحْتَازَ اِحْتِیازاً الشیءَ: کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، حاصل کرنا۔ الحَوْز: چار دیواری سے محفوظ کی ہوئی جگہ۔ حَوْزُ الدار: گھر کے متعلقات، جیسے باورچی خانہ، غسل خانہ، طویلہ، اصطبل وغیرہ۔ الحَوْزَة: کنارہ۔ حوزة المملكة: سرحدوں کے درمیان وسطی حصہ۔ الحَوَّاز: الحائز کا مبالغہ کا صیغہ: اس سے ہے: الـ[illegible] الحَوَّازُ القلوب: گناہ دلوں پر پورا قابو پالیتا ہے اور ان پر اتنا غلبہ حاصل کر لیتا ہے کہ ناپسندیدہ کام تک سرزد ہونے لگتے ہیں۔ الحَوْزَاء: لڑائی، جنگ جس کے لئے ایک بڑا لشکر جمع کیا جاتا ہے۔ الحُوَیزاء: ساتھی سے پوشیدہ رکھا ہوا ذخیرہ۔ الحَیْز و الحَیِّز: جگہ، کہا جاتا ہے: هذا فی حیز التواتر: اس کا ثبوت تواتر کے درجہ میں ہے۔

۲۔ حَازَ ـُ حَوْزاً الرجلُ: آہستہ چال سے چلنا۔ — واِحْتَازَ اِحْتِیَازاً الابلَ: اونٹوں کو نرمی سے ہانکنا۔ حَوَّزَ تَحْوِیزاً الابلَ: اونٹوں کو پانی کی طرف لیجانے کی پہلی رات کو اونٹوں کو پانی کی طرف ہانکنا۔ لیلةُ الحَوْز: پہلی رات جس میں اونٹوں کو پانی کی طرف لیجایا جاتا ہے۔ الحُوزِیّ: اونٹوں کو ہانکنے والا، ساربان۔ الأحْوَزِیّ: اچھا ہانکنے والا۔ ماہر، ہر کام میں پھرتیلا اور چست۔

۳۔ حَاوَزَ مُحَاوَزَةً ہُ: کو پاؤں سے روندنا، کے ساتھ زندگی گزارنا، سے میل ملاپ رکھنا۔ اِنْحَازَ الیه: کی طرف مائل ہونا۔ عنه: سے پھر جانا ہٹ جانا۔ الحَوزة: طبیعت۔

۴۔ حَاوَزَ مُحَاوَزَةً ہ: کو دھتکارنا۔ تَحَوَّزَ: کنارہ کش ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ دخل علیه فما نحوزله: وہ اس کے پاس آیا تو اس کے لئے علیحدہ نہیں ہوا۔ —ت الحیّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ تَحَاوَزَ الفریقان: دو فریقوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ اِنْحَازَ اِنْحِیَازاً القومُ: قوم کا مرکز کو چھوڑ دینا، شکست کھانا، پسپا ہونا۔ — عنه: سے پھر جانا، ہٹ جانا۔ — الیه: کی طرف مائل ہونا۔ الحُوزِیّ: قوم کو چھوڑ کر علیحدہ فروکش ہونے والا۔ سیاہ۔

○ حَازَ ـُ حَوْزًا و حِیَازَةً ہ: کو رکھنا، کا مالک ہونا پر قابض ہونا، (کامیابی، فتح وغیرہ) کو حاصل کرنا، جیتنا، وصول کرنا، کا قبضہ حاصل کرنا، کا کنٹرول حاصل کرنا، کی بلاشرکت غیرے تجارت کرنا۔ حَازَ ـِ حَیزاً ہ: اونٹوں کو ہانکنا، ہانک کر لیجانا۔ تَحَوَّزَ و تَحَیَّزَ: درد سے پہلو بدلنا، اینٹھنا، تشنج ہونا، جسم کو ادھر ادھر جھکانا بل کھانا، کنڈلی بنانا، لوٹ پوٹ ہونا، تڑپنا۔ تَحَیَّزَ عن: سے دور رہنا، علیحدہ ہونا۔ — الی: کا مددگار ہونا، کی طرف مائل ہونا، جھکنا، سے رغبت ہونا، کی طرف رخ ہونا، سے متحد ہونا، سے مل کر کام کرنا، سے آملنا یا جاملنا، میں شامل ہونا، — الی / ل کی حمایت کرنا، کا ساتھ دینا، کی طرف داری کرنا، جانبداری کرنا۔ اِحْتَازَ ہ نیز: قابض ہونا کا مالک ہونا، کو رکھنا، کا قبضہ لینا، — ہ عن:

کو سے دور رکھنا، کو سے منع کرنا، روکنا۔ حَوْز: قبضہ، موجودہ مال، قبضہ، علاقہ، ملکیت، حصول، یافت، اکتساب، تحصیل قبضہ لینا، قبضہ، دخل، تصرف، کرایہ داری، پٹہ داری۔ جمع احواز: چاردیواری، احاطہ، احاطہ بندی، حد، سرحد، محصور جگہ، گردوپیش، قرب و جوار، نواح شہری حدود۔ حُوزی: قابضانہ حق قبضہ کا۔

حَوزة: قبضہ، موجودہ مال، حق قبضہ، حق لگان داری، عہدے کی مدت یا شرائط۔ جائداد، علاقہ۔ في حوزيه يا في حوزه يده: کے قبضہ میں۔ الدفاع عن حوزة مصر: مصری علاقہ کا دفاع۔ حَيز و حَيّز جمع أحياز: جگہ، دائرہ، میدان، مار، فاصلہ، سلسلہ، دسترس، رسائی، پہنچ، حد، وسعت، حد، حدود، کنارہ، میدان، قلمرو، کرہ، فلک، دائرہ، حلقہ۔ لا يدخل في حيز المعقول: یہ سمجھ کی حدود کے اندر نہیں۔ برز إلى حيز المعقول: حقیقت کی قلمرو تک بڑھنا یعنی حقیقت بن جانا۔ في حيز الإمكان: امکان کی قلمرو کے اندر، بالکل ممکن۔ حِيازة: قبضہ، موجودہ مال، قبضہ لینا، قبضہ، ملکیت، لقب، خطاب یا عہدہ کا حصول، حق قبضہ کا حصول حصول۔

تحیّز: جانب داری، طرف داری، بے جا حمایت، میلان، تعصب، بدظنی، بدگمانی، رجحان، التفات۔

انحیاز: تنہائی، علیحدگی، گوشہ نشینی۔ خلوت، خانہ نشینی عزلت، طرف داری، جانبداری، تعصب، بدظنی، بدگمانی۔ حائز: قابض، حامل، کرایہ دار۔ متحیز: طرف دار، جانبدار، متعصب۔ مُنحاز عن: سے علیحدہ، ہٹا ہوا، عزلت گزین، جدا، سے اجنبی، سے باہر کا، غیر متعلق شخص۔

حاس: ۱۔ حَاسَ ـُ حَوْساً القومَ: کو روندنا، ذلیل کرنا، سے میل ملاپ کرنا۔ ـ الذئبُ الغنمَ: بھیڑیا کا بکریوں میں گھس کر ان کو تتر بتر کر دینا۔ ـ الجزّارُ الإهابَ: قصائی کا کھال اتارنا۔ ـ ت المرأةُ ذيلَها: عورت کا دامن کو کھینچتے ہوئے روندنا۔ الأحْوَس جمع حُوس: بھیڑیا۔ الحُواسة: غنیمت۔

۲۔ حَوِسَ ـَ حَوَساً: دلیر اور منچلا ہونا۔ ـ تَحَوَّسَ: دلیری اختیار کرنا۔ ـ في الكلام: کلام کے لئے تیار ہونا۔ الاحوس جمع حُوس: بہادر، دلیر۔ الحُوَّس: بہت سے لوگوں کو قتل کرنے والا بہادر۔

۳۔ تَحَوَّسَ للشيءِ: کے لئے دردمند ہونا۔ الأحوَس جمع حُوس: جو کسی شے سے سیر نہ ہو۔ الحُواسة: حاجت، ضرورت۔ ـ والحُوَيْساء: قرابت، رشتہ داری۔

۴۔ استحوَس استحواساً: رکنا، دیر لگانا۔

○ احتَوَس: ہچکچانا، ادھر ادھر ہلنا، پس و پیش کرنا، گومگو کی حالت میں ہونا۔

حاش: ۱۔ حَاشَ ـُ حَوْشاً الإبلَ: اونٹوں کو اکٹھا کر کے ہانکنا۔ حَوَّشَ ه: کو بہت جمع کرنا۔ تَحاوَشُوا عليه: کو اپنے درمیان میں لے لینا۔ احتوشَ القومُ الرجلَ و عليه: لوگوں کا کسی کو گھیر کر اپنے درمیان میں لے لینا۔ انحاشَ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الحَوْش: گھر کا اردگرد، باڑہ۔ حائشُ الشجر: درخت کا گنجان اور گھنا حصہ۔ الحُواشة: قرابت، رشتہ داری۔

۲۔ حَاشَ ـُ حَوْشاً و أحاشَ احاشةً و أحْوَشَ إحواشاً الصيدَ: شکار کو پھندے کی طرف لانے کے لئے چاروں طرف سے گھیرنا۔ ـ عليه الصيدَ و أحوشَه إيّاه: شکار کو شکار کرنے میں کسی کو مدد دینا۔ انْحاشَ له الصيدُ: شکار کا (شکاری) کے پاس خود آنا۔ احتوشَ القومُ الصيدَ: شکار کو ایک کا دوسرے کی طرف بدکانا۔ استحوشَ استحواشاً الصيدَ: شکار کو گھیر کر پھندے کی طرف لانا۔

۳۔ حَوِشَ الرجلُ: تیار ہونا، بہادر و شجاع ہونا۔ حاوشَه على الأمر: کو کسی کام پر اکسانا، برانگیختہ کرنا۔ رجلٌ حُوشُ الفؤاد: تیز فہم آدمی۔

۴۔ تَحَوَّشَ عنه: سے کنارہ کش ہونا۔ ـ منه: سے شرم و حیا کرنا۔ انحاشَ عنه: سے نفرت کرنا۔ الحُواشة: شرم و حیا کا سبب۔ الحُوشِي: تنہائی پسند۔ ـ من الكلام: نادر اور غریب الکلام۔ ـ من الليالي: تاریک رات۔

○ حَاشَ ـُ حَوْشاً ه: شکار کو گھیرنا، جال میں لیجانا۔ کسی چیز کو روکنا، منع کرنا، کی راہ میں حائل ہونا، کے آگے بند باندھنا، کو مخفی رکھنا۔ حَوَّشَ ه: کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، کا ڈھیر لگانا، کے انبار لگانا، کو بٹورنا، (تعداد یا مقدار میں بڑھانا کا ذخیرہ، کرنا، کو سینت سینت کر رکھنا، (روپیہ) کو بچانا کو مستقبل کے لئے پس انداز کرنا، کو پانا، حاصل کرنا، کے ہاتھ لگنا۔ حَوْش جمع أحْواش حيشان: علاقہ جس کے گرد چاردیواری ہو، چاردیواری، صحن۔ حَوْش: بھیڑ، ہجوم، اراذل، کمینے، گھٹیا لوگ۔ حُوشي: جنگلی، غیر معمولی، عجیب سا، عجیب، ناواقف، نامعلوم۔ أسبوعُ الحاش: حضرت مسیح کے مصائب بیان کرنے کا ہفتہ۔

حاص: ۱۔ حَاصَ ـُ حَوْصاً و حِياصةً حوله: کے گرد منڈلانا، کے اردگرد پھرنا۔

۲۔ حَاصَ ـُ حَوْصاً و حِياصةً الثوبَ: دور دور ٹانکے لگا کر کپڑا سینا۔ [illegible]

حَوَصاً: کی آنکھ کا پچھلا حصہ تنگ ہونا۔ صفت: أحْوَص مونث حَوْصاء جمع حُوص و أحاوِص۔ حاوَصَ ه: کو آنکھ کے پچھلے گوشہ سے مخفی طور پر دیکھنا۔ اختاصَ اختياصاً في أمره: اپنے کام میں احتیاط کرنا۔ الحَوْص: پیچش کا مروڑ۔ کہا جاتا ہے: دَخَلَ في حوص الناس: وہ لوگوں کے اندر کے معاملات اور کہانی میں دخیل ہوا۔ ما طعنتَ في حوصه: تم اپنے ارادہ میں ناکام رہے۔ لأطعنَنّ في حَوْصك: جو تم نے سیا ہے میں اس کو ادھیڑ کر رکھ دوں گا اور جو تم نے درست کیا ہے میں اسے بگاڑ ڈالوں گا۔ الحُوص: چھوٹی آنکھوں والے۔ الحِوَاص: لکڑی کی سوئی۔ الحِياصة: جانور کا تنگ۔

۳۔ اِختاصَ إختياصاً في أمره: اپنے کام میں احتیاط کرنا۔

۴۔ حَوْصَلَ الطائرُ: پرندہ کا اپنا پوٹا بھرنا۔ ـ الحنطةَ: گیہوں کو جمع کرنا۔ الحَوْصَل: پرندہ کا پوٹا، جو انسان کے معدے کا درجہ رکھتا ہے۔ الحَوْصَلة و الحَوْصَلّة و الحَوْصَلاء: پرندہ کا پوٹا۔

○ حَوَص: نگاہ کا ترچھاپن۔ أحْوَص مونث حَوْصاء جمع حُوص: ترچھی نظر والا۔ حِياصة: جانور کا تنگ۔ حَوْصَل و حَوْصَلة: پوٹا (پرندے کا) مثانہ، ایک آبی پرندہ جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے خون سے پالتا ہے۔ الحوصلة المرارية: پتہ، زہرہ، صفرا۔ حُوَيْصِل: چھالا، آبلہ، پھپھولا، پانی والا چھالا۔ حُوَيْصِلة جمع حُوَيْصِلات: چھالا، آبلہ، پھپھولا۔

حاض: ۱۔ حَاضَ ـُ حَوْضاً: حوض بنانا۔ ـ الماءَ: پانی جمع کرنا۔ حَوَّضَ: حوض بنانا۔ ـ حولَ الأمرِ: معاملہ کے گرد گھومنا، چکر لگانا۔ تَحَوَّضَ و احتاضَ: حوض بنانا۔ استحوضَ الماءُ: پانی کا حوض نما گڑھے میں جمع ہونا۔ الحَوْض جمع أحْواض و حِياض و حِيضان: پانی جمع ہونے کی جگہ۔ حَوْضُ الأذن: کان کا گڑھا۔ المُحَوَّض: درخت کا تھالا۔ درخت کے اردگرد پانی کا گڑھا۔

۲۔ الحَوْضِيّة (ن): معتدل آب و ہوا کے علاقوں کا ایک پھولدار پودا، جس کے پھول بڑے اور کئی رنگ کے ہوتے ہیں۔ آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے اور ستارے کی شکل کے پانچ نکٹ ہوتے ہیں۔

○ حَوْض جمع أحْواض و حِياض و حِيضان: رود بار، طاس، تسلا، لگن، تشت، پانی کی کنڈی، ڈونگی

جیسی پانی کی شکل کی کنڈی، تالاب چوبچہ، ٹینکی، حوض، خزانہ آب، کوئی شے رکھنے کے لئے ڈبہ، بوتل وغیرہ، قدرتی تالاب۔ کُند مصر کے آبپاشی کے نظام میں) زمین کا وہ قطعہ جس کے گرد کھائیاں ہوتی ہیں جن میں دریائے نیل کا سیلابی پانی جمع ہوتا ہے۔ جوہڑ، پیڑو، عانہ، پھولوں کی کیاری، گودی۔ جمع حِیاض: مقدس زمین، علاقہ، عملداری، ریاست، تعلقہ، جاگیر، مقدس مقام، عبادت خانہ، حرم۔ خلوت کدہ۔ حوض جاف: خشک گودی۔ حوض حَمّام: نہانے کا ٹب۔ حوض عوّام: تیرتی گودی۔ ذاد عن حِیاضِہ: کا دفاع قبول یا اختیار کرنا کا حامی بننا، اپنا دفاع کرنا۔ ذب عن حِیاضِ الدین: دین کا دفاع کرنا۔ احواضُ الفحم الحدید: کوئلے اور لوہے کے تہ نشین مادے۔ حُوَیضة گردوں کا پیڑو۔

حاط ۱۔ حَاطَ ـُ حَوْطاً و حِیْطَةً و حِیَاطَةً ہٗ: کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا حَــوَّطَ ہٗ: کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، اِحْتَاطَ الرجلُ: اپنے امور میں ہوش وحواس سے کام لینا۔ —علی الشیء: کی محافظت کرنا۔ —لِنفسِہٖ: بہت محتاط ہونا، پر اعتماد ہونا تَحَوَّطَ ہٗ: کی حفاظت کرنا، کہا جاتا ہے۔ فلانٌ یتحوط اخاہ حیطةً حسنةً: فلاں شخص اپنے بھائی کی اچھی دیکھ بھال رکھتا ہے۔ اِسْتَحاط فی امرہ او تجارتہ: اپنے کام یا تجارت میں بڑی احتیاط سے کام لینا۔ الحَوْط: کوڑیاں یا مہرے پر دیا ہوا دھاگا جو نظر بد سے بچنے کے لئے کمر پر باندھا جاتا ہے۔ الحَوْطَة و الحَیْطَة: احتیاط۔ الحِیْطَة بمعنی الحَوْطَة: پاکدامن شریف عورت۔ الحائِط جمع حِیطان و حِیَاط (فا) الحَوَّاط: حائط کا مبالغہ کا صیغہ۔ الأحْوَط: بہت احتیاط کرنے والا، قابل اعتماد (احتیاط سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے خلاف قاعدہ ہے)۔

۲۔ حَاطَ ـُ حَوْطاً و حِیْطَةً و حِیَاطَةً بہ: کو گھیرنا، کا احاطہ کرنا، کو اتفاقاً پالینا۔ حَوَّطَ الساحة: کھلی جگہ کے گرد دیوار بنانا۔ — الحائطَ: دیوار بنانا۔ حول الامر: کے گرد، چکر لگانا۔ حَاوَطَہٗ: کسی ایسی چیز کے حصول کے لئے چکر کاٹنا جس کے دینے سے کسی کو انکار نہ ہو۔ اَحَاطَ و اِحْتَاطَ بہ: کو چاروں طرف سے گھیرنا، کا احاطہ کرنا، کہا جاتا ہے: اَحَاطَ بالامر علماً: کے بارے میں پوری طرح باخبر ہونا۔ الحائِط جمع حِیْطَان و حِیَاط: دیوار، باغ۔ المُحِیط: اسم فاعل (ہ): دائرہ کا احاطہ کرنے والا خط، گرد و پیش، ماحول جسمیں انسان رہتا ہے۔ البحر المحیط: بحر اوقیانوس۔ المحَاطَ: وہ جگہ جو لوگوں اور چوپایوں کے پیچھے اور ارد گرد ہو۔ باڑ، باڑہ۔ حُوَّاطُ الأمر: کسی کام کا مدار، قوام۔ حُوَاطة: کھانا رکھنے کی الماری۔ التحْوِیْطَة: دائرہ کی طرح صف بندابیات۔

۳۔ الحَوْط: چاندی وغیرہ کا بنا ہوا چاند جس سے بچہ کی آرائش کی جاتی ہے۔ الحِوَط: ناقص درہموں کو پورا کرنے والی چیز۔

○ حَاطَ ـُ حَوْطاً و حِیْطَةً و حِیَاطَةً ہٗ / ہ: کی حفاظت کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، کا نگران ہونا کی نگرانی کرنا۔ — ہ: کی طرف توجہ کرنا، کی نگہداشت کرنا، کی دیکھ بھال کرنا۔ — ب: کو گھیرنا، گھیرے میں لینا، حلقے میں لینا، کا احاطہ کرنا، ملفوف کرنا، کے گرد حلقہ ڈالنا، کو محصور کرنا۔ حَوَّطَ ہ کے گرد دیوار بنانا، کا دیوار سے احاطہ کرنا، کو گھیرنا، گھیرے میں لینا، حلقے میں لینا، کا احاطہ کرنا، کا محاصرہ کرنا، کے گرد گھیرا ڈالنا، کو گھیر لینا، سب طرف سے گھیرے میں لے لینا۔ حَاوَطَ ہٗ: سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کرنا، کو جل دینے، ٹھگنے یا سے زیادہ چالاک بن کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، کو گمراہ کرنا، ورغلانا، بہکانا، پھسلانا۔ اَحَاطَ ب: کو گھیرے میں لینا۔ — ہٗ / ہ ب: کا سے احاطہ کرنا کو سے گھیرنا، گھیرے میں لے لینا۔ — ہ/ب: کے گرد گھیرا ڈالنا، کو محصور کرنا، کا احاطہ کرنا، ملفوف کرنا کو گلے لگانا، آغوش لینا، قبول کرنا، اختیار کرنا، پر مشتمل ہونا، کو شامل ہونا، پر محیط ہونا، — ب: کے گرد گھیرا ڈالنا۔ — ہٗ/ہ ب: کے گرد سے گھیرا ڈالنا، کو سے گھیر لینا، کو سے گھیرے میں لینا، کو سے حلقہ میں لینا۔ — ب: کو سب طرف سے گھیر لینا۔ — ب: سے اچھی طرح آگاہ ہونا، کو پوری طرح سمجھنا، کا ادراک کرنا، کو مکمل طور پر سمجھنا، سے واقف ہونا، پوری طرح شناسا ہونا۔ اَحَاطَ بہٖ علماً: کو پوری طرح جان لینا، کا وسیع علم رکھنا، پر توجہ کرنا، کی طرف توجہ کرنا۔ اَحَاطَہٗ علماً ب: اس نے اسے اس کی اطلاع دی۔ اس نے اسے اس کے بارے میں آگاہ کیا، وہ اسے اس کے نوٹس میں لایا۔ تَحَوَّطَ ہٗ/ ہ: کی حفاظت کرنا، کے بارے میں حفظ ماتقدم کے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ — ہ: پر توجہ کرنا۔ —: محتاط ہونا، چوکنا ہونا، چوکس ہونا، ہوشیار ہونا۔ اِحْتَاطَ محتاط ہونا چوکنا چوکس یا ہوشیار ہونا، خبردار ہونا، — ل: کو یقینی بنانے کے لئے احتیاطی تدابیر کرنا، تیاریاں کرنا۔ — ب: کا محاصرہ کرنا، کے گرد گھیرا ڈالنا، کو گھیر لینا، کو گھیرے میں لے لینا، — ب علی: کی سے حفاظت کرنا۔ — ب: کی نگہداشت کرنا، نگرانی کرنا، پر توجہ دینا کی دیکھ بھال کرنا، — بان دیکھنا کہیں، خیال رکھنا کہ مبادا...... حِیطَة و حَیْطَة و حَوْطَة: دوراندیشی، احتیاط، خبرداری، ہوشیاری، چوکسی، عاقبت اندیشانہ توجہ، مصلحت بینی، عاقبت اندیشی، دانائی، نگہبانی۔ اَخَذَ حِیطَتَہٗ: چوکنا ہونا، چوکس ہونا، ہوشیار ہونا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ بلا حیطةٍ: بے سوچے سمجھے، بے پروائی سے، نادانستہ۔ حِیَاطَة: حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، پہرہ دینا، حفاظت، نگرانی، تحویل، فکرمندی۔ تَحْوِیط: گھیر لینا۔ اِحَاطَة گھیر لینا، گھیرا، ادراک، فہم، سمجھ، گرفت، وسعت نظر، علم، واقفیت، دانش، آگاہی۔ — ب: کا علم، سے واقفیت، شناسائی، —: اطلاع، رابطہ، مکتوب، مراسلہ۔ تَحَوُّط: اہتمام، تیاری، فکر، توجہ، احتیاط، ہوشمندی۔ جمع تَحَوُّطَات: احتیاطی تدابیر، اقدامات یا کارروائیاں۔ اِحْتِیَاط: اہتمام، تیاری، توجہ، احتیاط، پیش بندی حفظ ماتقدم، چوکسی، خبرداری، آگاہی، احتیاطی تدبیر جمع احتیاطات: احتیاطی تدابیر، کارروائیاں یا اقدامات۔ علی سبیل الاحتیاط: احتیاط کے طور پر، احتیاطی تدبیر کے طور پر، خطرہ مول لئے بغیر۔ احتیاطی: احتیاطی، اضباطی (دوا، علاج) مانع، امتناعی، انسدادی، دافع، بدل، قائم مقامی، جانشینی، عوض، غیر مستعمل، جو وقت ضرورت کے لئے اٹھا رکھا جائے کا زائد (پرزہ وغیرہ) محفوظ یا فاضل (چیز) بوقت ضرورت کام آنے والی (چیز)، شخص یا چیز جو قائم مقام یا بدل کے طور پر یا ہنگامی حالت میں دستیاب ہو۔ محفوظ سرمایہ، ریزرو فوج، فاضل فوج۔ حبسٌ احتیاطی: تحقیقات کی تکمیل تک نظربندی، قید یا حراست، تدابیرٌ احتیاطیةٌ: احتیاطی اقدامات، کارروائیاں یا تدابیر، قواتٌ احتیاطیة: ریزرو فوج، فاضل فوج۔ مال احتیاطی: محفوظ سرمایہ۔ احتیاطیٌ الزیت الخام: تیل جو بوقت ضرورت کام میں لانے کے لئے محفوظ کیا گیا ہو۔ حَائِط جمع حِیطان و حِیاط و حَوَائِط: دیوار۔ حائط المَبْکَی: (یروشلم میں) دیوار گریہ۔ اَلْقَی (ضربَ) بہ عُرضَ الحائط: کو غیر اہم غیر سنجیدہ سمجھنا، کو مسترد کرنا، بے کار سمجھ کر پھینک دینا، ترک کر دینا کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، توجہ کے لائق نہ سمجھنا، کو حقیر جاننا، سے نفرت کرنا، ذلیل جاننا، کو تباہ کر دینا، ناکام بنا دینا۔ حَوِیط: چالاک، ہوشیار طباع، حاضر جواب، ہونہار، سمجھدار، ہوشمند، زیرک۔ مُحِیطٌ ب: کو

گھیرے ہوئے، کو گھیرنے والا سے واقف، آگاہ، شناسا، جمع مُحیطات: محیط، گھیرا، گھیر، لمبائی، طول، حد، دائرہ، میدان، مار، سلسلہ، دسترس، رسائی، گنجائش وسعت، حدِ نظر، پہنچ، علاقہ، معاشرتی ماحول گردوپیش، گردونواح، ماحول، سمندر جمع مُحِیطات: گردوپیش، گردونواح، ماحول۔ المحیط الأطلنطی: بحر اوقیانوس۔ المحیط الهادی: بحرالکاہل۔ مُحاطٌ ب: سے گھرا ہوا۔ مُحَوِّط: چوکس، ہوشیار، چوکنا، ہوشمند، دور اندیش، دوربین آخر بین، محتاط، انجام پر نظر رکھنے والا۔

حاف: ۱۔ حَافَ ـُ حَوْفًا الشیءَ: کو کنارہ پر کرنا۔ حَوَّفَ الشیءَ: کو کنارہ پر کرنا۔ ـ المکانَ: جگہ کو گھیرنا۔ تَحَوَّفَ الشیءَ: کو اس کے کناروں سے کم کرنا، کے کنارہ کو لینا۔ الحُوف: طرف، کنارہ، گوشہ۔ الحافَة جمع حافات و حِیف: طرف، جانب کنار۔ احافتا الوادی و نحوه: وادی وغیرہ کے دونوں کنارے دونوں جانب۔

۲۔ الحَوْف: ازار نما چمڑے کی ایک چیز جس کو بچے پہنتے ہیں۔ الحَافَة جمع حافات و حِیف: شدت، تنگی، حاجت۔ الحَافَان: زبان کے نیچے کی دو سبز رگیں۔

○ حَوْف: کنارہ، رم (rim) گھیرا، انگر، پہیے کا بیرونی حصہ، چھجا، ساحل، حاشیہ، سنجاف، مغزی، گوٹ، جھالر، پلو۔ حَافَة جمع حافات و حَوَافٍ: باڈر، رم، کنارہ، چھجا، کور، ساحل، جھالر، حاشیہ، پلو، سنجاف، مغزی گوٹ۔ بین حوافیه: کے اندر اندر، اس میں، کے اندر۔

حاق: ۱۔ حَاقَ ـُ حَوْقًا الشیءَ: کو رگڑ کر چکنا کرنا۔

۲۔ حَاقَ ـُ حَوْقًا البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا۔ حَوَّقَ علیه: سے گڑبڑ کلام کرنا، بے تعلق گفتگو کرنا۔ المُحْوَاقَة: کوڑا کرکٹ، جھاڑن۔ المِحْوَقَة جمع مَحَاوِق: جھاڑو۔

۳۔ حَاقَ ـُ حَوْقًا به: کا احاطہ کرنا، کو گھیرنا۔ الحُوق: گھیرا، چوکھٹا۔ الحَوْق و الحَوْقَة: بڑا گروہ، بڑی جماعت۔

۴۔ حَوْقَلَ حَوْقَلَةً و حِیقالاً: چلنے سے تھکنا اور کمزور ہونا، کمزور اور بوڑھا ہونا۔ الشیخُ: بوڑھے شخص کا چلتے ہوئے اپنی کمر سے ٹیک لگانا۔ الحَوْقَل: عمر رسیدہ، بوڑھا۔

۵۔ حَوْقَلَ حَوْقَلَةً و حِیقالاً: لاحول ولا قوة الا باللّٰه العلی العظیم کہنا۔ الحَوْقَلَة: لمبی گردن کی شیشی۔

○ حَاقَ ـُ حَوْقًا ب: کو گھیرنا، کی احاطہ بندی کرنا کا احاطہ کرنا کو لفافے میں بند کرنا، کی باڑھ لگانا، سے گلے ملنا، کو گلے لگانا، آغوش لینا، سے ہم آغوش ہونا۔ حَوَّقَ علی: بمعنی حَاقَ ب۔ حَوْقَلَة: دوائی کی چھوٹی شیشی، کپی۔

حاك: حَاكَ ـُ حَوْكًا و حِیاكًا و حِیاكَةً الثوبَ: کپڑا بننا۔ صفت: حَائِك جمع حَاكَة و حَوَكَة مؤنث حائِكة و حائِك جمع حائِكات و حوائك۔ کہا جاتا ہے۔ حَاكَ الشیءُ فی صدری: فلاں چیز میرے دل میں جم گئی۔ حَاكَ الشاعرُ القصیدةَ: شاعر نے قصیدہ نظم کیا۔ ما أحَاكَ سیفُهُ: اس کی تلوار نے نہیں کاٹا۔ کہا جاتا ہے: ضَرَبَهُ فما أحَاكَ فیه سیفُهُ: اس نے تلوار ماری مگر کارگر نہیں ہوئی (یہ ہمیشہ نفی میں استعمال ہوتا ہے) الحَوْك (ن) جنگلی تلسی۔ کہا جاتا ہے: هذا علی حَوْكِ هذا: یہ اس کا ہم شکل و ہم عمر ہے۔ المُحَاكَة: کھڈی، کارگاہ۔ المَحْوَكَة: لڑائی، جنگ۔

○ حَاكَ ـُ حَوْكًا و حِیاكًا و حِیاكَةً ه: کو بننا، کو ملا کر بننا، گوندھنا، ملانا، جوڑنا، باہم وابستہ کرنا، (جوڑے وغیرہ) بننا، جوڑا باندھنا چوٹی گوندھنا، موباف لگانا، میں پلیٹ ڈالنا، سازش کرنا، کی تدبیر کرنا، کی ترکیب سوچنا، کا منصوبہ باندھنا، کا منصوبہ بنانا، (قصہ) گھڑنا، (بہانہ) تراشنا، (اپنے تصور میں) منصوبہ بنانا کو گھڑنا یا تخلیق کرنا۔ حِیاكَة: بننا، سلائی سے بننا، چوٹی گوندھنا، جوڑا باندھنا، پلیٹ ڈالنا۔ حائِك جمع حَاكَة: جولاہا، نورباف، پارچہ باف۔ سفید اونی مواد کے ایک لمبے ٹکڑے سے بنایا ہوا بیرونی لباس جو جسم اور سر کو ڈھک لیتا ہے۔

حال: ۱۔ حَالَ ـُ حَوْلاً و حُؤُولاً الشیءُ: ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا۔ ـ ت القوسُ: کمان کا ٹیڑھا ہونا۔ العهدُ: زمانہ کا پلٹ جانا۔ ـ الی مکان آخر: دوسری جگہ منتقل ہونا۔ حَوَّلَ هُ: کو زائل کرنا، کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ ـ الرجلُ: منتقل ہونا۔ ـ ه الیه: کو الٹانا، پلٹ دینا۔ أحَالَ الغریمَ بدَیْنِه علی آخر: قرض دوسرے پر اتارنا، قرض دوسرے کے حوالے کرنا۔ قرض دار کو قرض سمیت دوسرے کے پاس بھیجنا۔ صفت فاعلی: مُحِیل، قرض دار مُحَال اور دوسرا قرض دار محال علیه اور مال: مُحَال به اور دوسرا قرض دار محال علیه اور سال: مُحَال به اور اسم الحَوالَةُ۔ ـ الامر علی

فلان: کسی معاملہ کو کسی پر موقوف رکھنا۔ تَحَوَّلَ الرجلُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ ـ عنه: سے پھر کر کسی دوسرے کے پاس جانا۔ اِحْتَالَ احتیالاً بالدَّین: قرض کو دوسرے کے ذمہ ڈالنا۔ اِسْتَحَالَ اِستِحالةً: ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا۔ ـ ت القوسُ: کمان کا ٹیڑھا ہو جانا۔ الحائل جمع حُوْل و حُوَّل و حِیال و حَوائِل: بدلے ہوئے رنگ والا۔ الحَال جمع أحْوَال و أحْوِلَة (مذکر و مونث): صفت کیفیت، ہیئت۔ حَالَةُ الشیءِ: کی صفت، کیفیت، ہیئت۔ حالاتُ الدهرِ: زمانہ کے انقلابات، زمانہ کی گردشیں۔ الحِوَل: زوال، انتقال۔ کہا جاتا ہے: لاحِوَلَ عنه: اس سے بچنا محال ہے۔ الحَوَال و الحَوَلان و الحُوَلان: تغیر، انقلاب۔ الحُوَلَة: تعجب۔ کہا جاتا ہے: هذا من حُوَلَةِ الدهرِ: یہ زمانہ کے عجائبات میں سے ہے۔ الحَوَالَة (ت): ہنڈی، پرونوٹ چیک، ڈرافٹ۔ المُحَال: ٹیڑھا۔ المَحَالَة جمع مَحَال و مَحَاوِل: رہٹ۔ المُسْتَحَالَة من القِسی: ٹیڑھی کمان۔

۲۔ حَالَ ـُ حَوْلاً و حُؤُولاً الحَوْلُ: سال گزرنا، سال پورا ہونا (کہا جاتا ہے: حالت الدارُ و حِیلَ بها: گھر پر بہت سے سال گزر گئے)۔ ـ علیه الحَوْلُ: پر سال گزر جانا۔ ـ ت النخلةُ (ز): کھجور کے درخت کا ایک سال بار آور ہونا اور ایک سال بار آور نہ ہونا۔ ـ حُؤُولاً و حِیالاً ت الأنثی: مادہ کا حاملہ نہ ہونا۔ حَوَّلَ الأرضَ (ز): کسی زمین پر ایک سال کاشت کرنا اور ایک سال زمین پر کاشت نہ کرنا۔ أحَالَ اللّٰهُ الحَوْلَ: اللہ تعالیٰ کا سال کو پورا کرنا۔ ـ بالمکان: کسی جگہ ایک سال قیام کرنا۔ ـ الشیءُ: چیز پر کئی سال گزرنا۔ أحْوَلَ الصبیُّ: بچہ کا ایک سال کا ہو جانا۔ اِحْتَالَ اِحْتِیالاً الشیءُ: پر ایک سال ہونا۔ الحَوْل جمع حُؤُول و أحْوَال: سال۔ الحَوْلیّ جمع حَوَالیّ: ایک سال کا بچہ۔ اسی سے ہے: حَوْلِیَّاتُ زهیر: وہ قصائد جن کے نظم کرنے، ترتیب دینے اور درست کرنے میں ایک سال کا عرصہ لگتا تھا۔ الحائل جمع حُوْل و حُوَّل و حِیال و حَوائِل: ایک سال کی عمر کا، بانجھ۔ کہا جاتا ہے: امرأة حائل و نخلة حائل: بانجھ عورت، بانجھ کھجور کا درخت۔ الحائلة: حائل کا مونث۔ المُحْوِل: ایک سال کا بچہ۔ المُسْتَحَالة من الأرض: ایک سال یا کئی سال تک چھوڑی ہوئی زمین، کاشت نہ کی گئی زمین۔

۳۔ حَالَ حِیلَۃً و مَحَالاً: حیلہ کرنا۔ حَاوَلَ مُحَاوَلَۃً و حِــــوَالاً ہُ: سے کوئی چیز حیلہ سے طلب کرنا۔ — الشیءَ: کا ارادہ کرنا اور حیلہ سے طلب کرنا۔ تَحَوَّلَ فی الامر: حیلہ وتدبیر سے کام شروع کرنا۔ اِحْتَـالَ اِحْتِیالاً: حیلہ سے کام لینا۔ الحَوْل جمع حُؤُول و اَحْوال: مہارت، دور بینی۔ الـحِـوَل: تصرف پر قدرت، مہارت، ہوشیاری، دور بینی۔ الـحِـیْلَۃ و الـحَوْلَۃ جمع حِیَل: تصرف پر قدرت، مہارت، ہوشیاری، دور بینی۔ الـحَـوَالِـیّ و الـحُوَّل و الـحُـوَّلِـی: حیلہ باز، بہت حیلہ گر، تبدیلی امور سے آگاہ۔ اَحْــــوَل: زیادہ حیلہ باز (کہا جاتا ہے: ھـو احـولُ منك و اَحْیَلُ مِنك: وہ تجھ سے زیادہ حیلہ باز ہے) زیادہ فریبی، زیادہ عیار کہا جاتا ہے۔ مـا اَحْوَلَـہُ و مـا اَحْیَلَـہُ: وہ کتنا فریبی اور عیار ہے۔ الحُوْلَۃ: بہت فریبی، بہت عیار۔ (کہا جاتا ہے، ھذا رجــلٌ حُـوْلَۃ: یہ زبردست فریبی، زبردست عیار ہے)، ہوشیار آدمی ہے۔ الـحَـوِل: بڑا حیلہ ساز۔ الحائلۃ: حیلہ کہا جاتا ہے۔ مـافیہ حائلۃ: اس میں کوئی حیلہ نہیں۔ المَحَالَۃ جمع مَحَال و مَحَاوِل: ہوشیاری، مہارت تصرف کی قدرت۔ کہا جاتا ہے: لامحــالۃ من الامر: ضروری امر یا شک وشبہ سے پاک امر۔

۴۔ حَالَ ـُ حَوْلاً و حُؤُولاً فی ظہر الدابۃ: جانور کی پیٹھ پر کود کر بیٹھنا۔ کہا جاتا ہے۔ اَحَــال عـلـیــہ بالسـوط یضربہ: وہ کوڑے مارنے کے لئے اس کی طرف سمٹا۔ اِحْـوَالَّتِ الارضُ: زمین کا سرسبز اور ہری بھری ہونا۔ حالُ متنِ الفرس: گھوڑے کی پیٹھ کا وسطی حصہ۔ المَحَالۃ جمع مَحَال و مَحَاوِل: پیٹھ کا درمیان، ریڑھ۔

۵۔ حَالَ ـُ حَوْلاً و حُؤُولاً الشخصُ: متحرک ہونا۔ حَاوَلَ مُحَاوَلَۃً و حِوَالاً البصر: گھور کر دیکھنا۔ اِحْتَوَلَ ہُ القومُ: لوگوں کا کسی کو گھیر لینا۔ اِسْتَحال اِسْتِحَالَۃً فلانٌ الشیءَ: کسی طرف دیکھ کر پتہ لگانا کہ وہ حرکت کرتی ہے یا نہیں۔ علِمُ الحِیل (حی): قوت وحرکت مشینری کا علم، مکینکس Mechanics۔

۶۔ حَالَ ـُ حَوْلاً و حُؤُولاً و حَیْلُولَۃً بینھما: کے درمیان حائل ہونا صفت: حــائـل جمــع حُوْل و حُوَّل و حِیَـال و حَـوَائِل، الحِوَال: دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز۔

۷۔ حَوِلَ ـَ حَوَلاً ت عینُہ: بھینگی آنکھ والا ہونا صفت: اَحْوَل مؤنث: حَوْلاء جمع حُوْل اَحَالَ العینَ: آنکھ کو بھینگی کرنا۔ اِحْوَلَّ ت عینہ: کی آنکھ بھینگی ہونا۔ الحَوَل (طب): بھینگا پن۔ الحَوِل: بھینگا۔

۸۔ حَوَّل الشیءَ: کو محال بنانا۔ اَحَـالَ الـرجلُ: محال بات کہنا۔ محال کام کرنا۔ اِسْتَـحَـالَ اِسْتِحَالَۃً: محال ہونا، ناممکن ہونا۔ الـمُـحَـــال: محال، غیر ممکن۔ المِحْوَال: بہت محال باتیں کہنے والا۔ المُسْتَحِیل من الکَلام: محال، لغو و باطل کلام۔

۹۔ الـحَـال جمـع اَحْوَال و اَحْوِلۃ: گرم راکھ سیاہ مٹی۔ حَوْل و حَوْلَی و حوال و حَوَالی الشیءِ او الشخصِ: چیز یا شخص کا اردگرد، کہا جاتا ہے: قَعَدَ حَوْلَہُ و حَوْلَیہِ و حَوَالَہُ و حَوَالَیہِ: وہ اس کے اردگرد بیٹھا۔ حِیـــالُ الشــیءِ: چیز کے سامنے بامقابل۔ کہا جاتا ہے: قَعَدَ حِیالَہُ و بِحِیالِہ: وہ اس کے سامنے یا مقابل بیٹھا۔ اعـطی کُلاًّ عـلی حِیـالہ: اس نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ دیا۔ الحُوْلَۃ: امر منکر۔ الـمُـحَــال: سراسر فساد کی بات، باطل، المُحِیل من النساء: لڑکی کے بعد لڑکا یا لڑکے کے بعد لڑکی جننے والی عورت۔ الـمُسْـتَحِـیل: لغو و باطل کلام، بھرا ہوا۔

۱۰۔ الحَوْلَقَۃ: حوقلۃ کی طرح۔ "لاحول ولا قوۃ الا باللّٰہ: اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہ حرکت ہے نہ قوت" کہنا۔

۱۱۔ حَــالَ ـُ حَوْلاً و حِیَلاً: بدلنا، تبدیل ہونا، کایا پلٹنا، قلب ماہیت ہونا۔ — الی / ہ: میں منتقل ہونا تبدیل ہونا، بڑھ کر کچھ ہو جانا، بدل کر کچھ ہو جانا، الی: کچھ ہو جانا، —عن: سے ہٹنا، تجاوز کرنا، منحرف ہونا، بچنا، بچ نکلنا، کو ٹال جانا، کا سامنا کرنے میں ناکام ہونا۔ —: (وقت کا) گزرنا۔ —حَیْلُولَۃً دون: کو نہ ہونے دینا۔ —بیــن: کے درمیان میں آنا، کے درمیان آنا، حائل ہونا۔ حَالَ عن عَھْدِ: کسی معاہدہ سے پیچھے ہٹنا حَالَ بیـن فلان و بین الامر: کسی بات کو کسی کے لئے ناقابل رسائی بنانا، ناممکن بنانا، تک کسی کا راستہ روکنا، کو سے روکنا، کو کوئی چیز نہ دینا۔ حَالَ بیـن نفسہ و بین الاشفاق: رحم، ترس سے متاثر نہ ہونا، اپنے آپ کو کسی ہمدردی سے روکنا۔ حَوَّلَ ہ الی / ہ ہ: کو میں تبدیل کرنا، —ہ: کو منتقل کرنا، دوسری جگہ لگانا، تبدیل کرنا (حسابی طور پر)، بجلی کا بٹن دبانا، برقی رو بدلنا، —ہ الی (روپیہ وغیرہ) کو ڈاک کے ذریعے کسی کو بھیجنا، کو تک پہنچانا، کی چیز کو کسی کو دینا۔ —ہ: ریل کے ڈبہ کو ایک لائن سے دوسری لائن پر لیجانا، شفٹ کرانا، لائن بدلنا۔ —ہ الی: کسی چیز کو کسی کو بھیجنا یا اس کے پتہ پر ارسال کرنا —ہ: ہنڈی، پرونوٹ کی نشست پر دستخط کرنا۔ ہ الی: کو کی طرف موڑنا، کا کی طرف رخ کرنا۔ —نظرۃ: کی طرف اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا۔ —ہ/ہ عـن: کو سے موڑنا، پھیرنا، کا سے خیال ہٹانا، کی توجہ سے ہٹانا، کو سے روکنا۔ — بصـرہٗ عن: کو اپنی آنکھوں سے ہٹانا، پھیرنا، —ہ: برقی رو بند کرنا۔ حَـوَّلَ الـدَّفَّۃَ: پتوار، کشتی یا جہاز کا پہیہ موڑنا، راستہ بدلنا۔ حَاوَلَ ہ و ان کو آزمانا، آزما کر دیکھنا، کی کوشش کرنا، کو کرنے کوشش کرنا۔ —ان: کو کرنے کی کوشش کرنا۔ —ہ: کو چالاکی سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ —: حیلوں بہانوں سے دھوکا دینا، معذرتیں کرنا، ذمہ داری سے بچنا، پہلو بچانا، دغا کرنا، فریب کرنا ٹال مٹول کرنا، ٹالنا۔ اَحَالَ ہ ہ/ہ الی کو سے بدلنا، کو ایک حالت سے دوسری میں بدلنا، کو میں تبدیل کرنا، کو عمل میں لانا۔ —ہ: کو منتقل کرنا۔ —ہ اِلی/ علـی: کو کے پاس بھیجنا، ارسال کرنا، کو کے سپرد کرنا۔ —ہ/ہ عــلــی: کو کے حوالے کرنا۔ —ہ علی: کو اوپر یا آگے کسی کے پاس بھیجنا۔ — ہ الی: کو کے سپرد کرنا، کے پاس بھیجنا، —ہ علی: (قرض) کسی کو منتقل کرنا، تفویض کرنا، سونپنا۔ اُحِیـل عـلـی (الی) المعاش و اُحِیل الی التقاعد: پنشن پر چلا جانا۔ تَحَوَّلَ: تبدیل ہونا بدلنا۔ —الی: میں بدل جانا، تبدیل ہو جانا، کچھ ہو جانا، بن جانا۔ عـن/مـن الی: سے کی حالت میں تبدیل ہو جانا، — من الی: سے میں تبدیل ہونا، سے بڑھ کر کچھ ہو جانا، سے نشوو نما پا کر میں ارتقا پذیر ہونا۔ —: پیچھے ہٹنا، دور ہونا، ترک کر دینا۔ — الـی: رہائش گاہ میں منتقل ہو جانا۔ —: سے ہٹ جانا کو چھوڑ بھاگنا سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، ہٹنا۔ عن الـطـریق: راستہ سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، ہٹ جانا، راستہ سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، ہٹ جانا، راستہ بھٹک جانا، — عن: کو چھوڑ دینا، سے دستبردار ہونا، کو ترک کرنا، سے دستکش ہونا، کی ذمہ داری سے انکار کرنا، سے بے تعلقی یا لاعلمی ظاہر کرنا۔ —: عیاری مکاری کرنا۔ تَحَوَّلَ کل حِیلۃٍ: ہر سمجھے والے فریب سے کام لینا، تَحَیَّلَ: فریب کاری کرنا۔ الــی: کے مقصد کے لئے یا کے حصول کے طریقے اور ذریعے بغور سوچنا، تَـحَـاوَلَ علـی: کچھ کرنے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، سخت جدوجہد کرنا۔ تحـایل و

اِحْتَالَ علی: کے خلاف عیارانہ ذرائع استعمال کرنا، فریب اور مکر سے کام لینا، داؤں اور چالیں استعمال کرنا، کو دھوکا دینا، فریب دینا،—ہ/ہ علی: کو کے حوالے کرنا،—ہ علی: کو اوپر یا آگے کسی کے پاس بھیجنا،—ہ علی (قرض) کسی کو منتقل کرنا، تفویض کرنا، سونپنا۔ تَحَوَّلَ: تبدیل ہونا بدلنا۔—الی: میں بدل جانا، تبدیل ہو جانا۔—عن/من الی: سے کی حالت میں تبدیل ہو جانا،—من الی: سے میں تبدیل ہونا، سے بڑھ کر کچھ ہو جانا، سے نشو ونمایاں کر میں ارتقا پذیر ہونا۔—: پیچھے ہٹنا، دور ہونا، ترک کر دینا،—الی: رہائش گاہ میں منتقل ہو جانا،— سے ہٹ جانا، کو چھوڑ بھاگنا، سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا رخ ہٹنا۔—عن الطریق: راستہ سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، ہٹ جانا، راستہ بھٹک جانا،—عن: کو چھوڑ دینا، سے دستبردار ہونا، کو ترک کرنا، سے دستکش ہونا، کی ذمہ داری سے انکار کرنا، سے بے تعلقی یا لاعلمی ظاہر کرنا،—: عیاری مکاری کرنا۔الی: کے مقاصد کے لئے یا کے حصول کے لئے طریقے اور ذریعے بغور سوچنا، تَحَاوَلَ علی: کو کچھ کرنے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، سخت جدوجہد کرنا۔ تَحایل و اِحْتَالَ علی: کے خلاف عیارانہ ذرائع استعمال کرنا، فریب اور مکر سے کام لینا، داؤں اور چالیں استعمال کرنا، فریب اور مکر سے کام لینا، داؤں اور چالیں استعمال کرنا، کو دھوکھا دینا، فریب دینا، جل دینا، ٹھگ لینا، سے زیادہ چالاک نکلنا، سے زیادہ چالاک ہونے کی وجہ سے فائدے حاصل کرنا، فریب سے کچھ حاصل کرنے یا کرنے کی کوشش میں لگا رہنا اِحْتَالَ: (اپنے وسائل پہ) کام کرنا یا کوشش کرنا، اپنے طور پر کوششیں کرنا۔ اِحْوَلَ: بھینگا ہونا اِسْتَحَالَ اِلی: میں تبدیل ہونا، بدلنا جانا۔—الی: نئی یا مختلف چیز میں بدل جانا۔—الی: نئی یا مختلف چیز میں بدل جانا،—علی: کے لئے ناممکن ہونا، لغو ہونا، ناقابل یقین ہونا لچر ہونا، بے سرو پا ہونا بعید از قیاس ہونا، بے تکا ہونا، مضحکہ خیز ہونا حال (مذکر و مونث) جمع اَحْوَال: حالت، صورت حال، وضع، مقام، درجہ، حیثیت، صورت، حال، حالات، واقعہ، حقیقت، امر واقع، واقعیت، حال (مستقبل کے مقابلہ میں) حال (واقعاتی یا تفصیلی اظہار یا جزو جملہ (گرامر) (جمع): حالات، معاملات، واقعات، حَالَ: کے دوران، کے فوراً بعد، کی صورت میں، حالاً: فوراً، ابھی، تھوڑی

دیر میں بلا تاخیر، اب، اس وقت، دراصل، درحقیقت، فی الواقع فی الحال اور للحال: فوراً، فی الفور، وہیں، اسی وقت، اس دم۔ عَلَی کلِّ حالٍ اور عَلَی ایِّ حالٍ بہر کیف، بر صورت، بہر حال، بہر صورت یَبْقَی عَلَی حالِہ: یہ غیر متبدل رہتا ہے، جیسا کہ ہے فی حال من الاَحْوَال: ایک یا دوسری صورت میں، کسی نہ کسی طرح، اگر موقع ہو، کسی طرح، (حرف نفی کے بعد) کسی صورت بھی نہیں، ہرگز نہیں، کسی طرح سے بھی نہیں، قطعاً نہیں، کسی بات میں بھی نہیں۔ بِاَیِّ حال، بِحال، علی حال: (نفی کے بعد) کسی صورت بھی نہیں، ہرگز نہیں، کسی طرح سے بھی نہیں، قطعاً نہیں کسی بات میں بھی نہیں۔ کَذٰلِکَ الحالُ فی: یہی حال کا بھی ہے۔ کَمَاھُوَ الحالُ فی ...... جیسا کہ کا حال ہے۔ کَیْفَ حالُكَ: تمہارا کیا حال ہے؟ تم کیسے ہو؟ شیء بِحالہ: کوئی چیز بذاتہ، بنفسہ، بجائے خود، ایک علیحدہ الگ، جدا یا مستقل چیز۔ الاَحْوَالُ الجَوِّیَة: موسمی حالات۔ محاکم الاحوال الشخصیة: زندگی پر اثر انداز ہونے والے اعداد و شمار کے متعلق عدالتیں، قانون (نظام) الاحوال الشخصیة: شخصی قانون صاحِبُ الحال: ذوالحال (گرامر کی اصطلاح)۔ عَرْضُ حال: درخواست، محضر، محضر نامہ حَالَمَا: جونہی، جونہی کہ، جیسے ہی حَالَة جمع حَالَات: حالت، صورت حال (ممکن، حقیقی) صورت، واقعہ، حَالَةَ: کے دوران، حالةَ ان: حالانکہ، ہرگاہ۔ والحالةُ ھذہ: ان حالات میں، ایسی صورت میں، جیسا کہ معاملات ہیں۔ فی حالةِ: کی صورت میں، فی حالةِ غِیابِہِ: اس کی غیر حاضری کی صورت میں۔ فی حالةِ الوفاة: موت کی صورت میں۔ فی ھذہ الحالة: اس صورت میں۔ لِحالةِ أن: کی صورت میں فی حالة ما اذا: اگر۔ کماھی الحالة فی: کی صورت میں۔ حالة اجتماعیة: ازدواجی یا متاہل زادگی کی حیثیت۔ الحالات الجَوِّیَّة: موسمی حالات۔ حالة الخطر: ہنگامی صورت میں موجود شخص یا چیز، خطرہ کی صورت، الحالة الراھنہ: حالت موجودہ موجودہ حالت۔ حالةُ الطواری: ہنگامی صورت۔ فی حالة التلبس: ارتکاب جرم کرتے ہوئے۔ الحالة المدنیة: شہری حیثیت، قانونی حیثیت، قانونی حیثیت سوء الحالة: ناگوار صورت حال، خطرناک

صورت براحال، بری حالت۔ حَالِی: موجودہ، تازہ حالیہ، حقیقی، عارضی، ناپائدار، فوری۔ حَالِیًا: اس وقت، دراصل، فی الواقع، درحقیقت، صورة حالیة: سرسری تصویر، سرسری فوٹو۔ حَالِیہ: حقیقت، واقعیت، امر واقع۔ موجودہ وقت کی دلچسپی، بروقتی۔ حَوْل جمع اَحْوَال: قوت، طاقت۔ لاحول له ولا حیلة: وہ مکمل طور پر بے بس ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے وسائل ختم ہو چکے ہیں۔ حَوْلَ: تغیر، تبدیلی جگہ کی تبدیلی۔ لایبتغون عنه حِوَلًا: وہ اسے اور طرح نہیں چاہتے، وہ اسی کو مانگتے ہیں۔ حَوَلَ: کے بارے میں، کے گرد، کے گرداگرد، کے چاروں طرف، کے قریب، لگ بھگ، کوئی، تقریباً، (تعداد، مقدار کے بعد آتا ہے)۔ م حوله: کے ارد گرد، کے قریب، من حَوْلَیْھما: ان دو کے اردگرد، قریب ان کے گرد و نواح سے، ان کے گرد و پیش سے۔ حَوْلی: عارضی، عبوری، مُؤقّت، ایک سال عمر کا (جانور) یکسالہ، نوجوان جانور، برہ، بھیڑ کا بچہ۔ حَوْلِیَات: وقائع، تاریخ، سالنامہ۔ حَیل: طاقت، قوت، کس بل، دم خم، جان۔ علی حَیْلِہِ: سیدھا (کھڑا ہوا) لاقوة ولاحَیْلَ مکمل طور پہ بے بس، مفلوج۔ حِیْلَة جمع حِیَل: تدبیر، ترکیب، استادی، ہنر، حیلہ، چالبازی، چال، داؤں، حیلہ، بہانہ، ٹالنے کی ترکیب، فریب مکر، دھوکا، منصوبہ، تجویز، ٹال مٹول، گول مول بات/حکمت عملی، مصلحت، مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ، عارضی بندوبست، داؤ پیچ، بچنے کا طریق عمل، قانونی چال۔ ماالحیلة؟ کیا کیا جائے۔ لاحیلة لِی فی: میرا ایسا کرنے کا کوئی امکان نہیں، میں ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ مابیدی حیلة: میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ لم یجد حیلةً اِلاَّ: وہ سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکا، اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اَعْیَتْهُ الحیلةُ: اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، کیے وغیرہ، بدحواس ہو جانا۔ حِیَلِیّ: فریبی، چالباز، عیار، مکار، چلتا پرزہ، کائیاں، چالاک، حیلہ باز، روباہ صفت۔ اَحْیَل: زیادہ فریبی، زیادہ عیار، زیادہ مکار، زیادہ چالباز۔ حَوَل: بھینگا پن۔ اَحْوَل مونث حَوْلاء جمع حُول: بھینگا۔ حُؤُول: تبدیلی، کایا پلٹ، قلب ماہیت، استحالہ،— دونَ: کی احتیاطی تدبیر۔ حِوَل: ملک رکاوٹ، پردہ، اوٹ، آڑ

جَيالَ: کے پیش نظر، کے بارے میں، جہاں تک اسکا تعلق ہے، کے سامنے، کے بالمقابل۔حَوَالَة جمع حَوَالات: تفویض، حقوق حوالے کرنا، سپرد کیا ہوا حق، ہنڈی، پرونوٹ، چیک، ڈرافٹ۔حوالة البريد، حوالة بريدية منی آرڈر۔حوالة سَفَر: مسافر یا سیاح کا چیک۔(traveler's check)
حَوَالَی: کے اردگرد، قریب، لگ بھگ، تقریباً، کچھ (تعداد، مقدار کے بعد) حَيْلُولَة: جدائی، علیحدگی، فراق، مداخلت، خلل اندازی، خلل، رکاوٹ، انتشار۔ـدونَ: کی احتیاط، احتیاطی تدبیر۔لامَحالَ و لامَحالَة: انتہائی طور پر یقیناً، وثوق سے، مطلقاً، واقعی۔لامحالة منه: یہ اٹل ہے، ناگزیر ہے، ہوکر رہنے والا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔تَحْوِيل الی: میں تبدیلی، تبدیلی، تغیر و تبدل، ترمیم، منتقلی، ادل بدل، الٹ پلٹ، منسوخی، استرداد، تقدیم، تاخیر، بگاڑ، قائم مقامی، برطرفی معزولی، بے دخلی، منتقلی، تفویض، سپردگی، انتقال نامہ، (کرنسی وغیرہ کی) تبدیلی، تغیر، تبادلہ حصص، (برقی رو کی) تبدیلی، انتقال (مالیات)۔تحويل الدُّيُون: ترسیل زر، کسی اور جگہ بھیجا جانے والا روپیہ، منتقلی زر، بھیجنا، ارسال کرنا، ہنڈی پرونوٹ، ڈرافٹ (تجارت) چیک، تصدیق ظہری، پشت پر فروخت کی تحریر، فرد حساب یا چیک کی پشت کی تحریر سامان کی وصولی پر اس کی قیمت کی ادائیگی کا نظام (cash on delivery)۔قابلية العُمْلَة للتحويل الى العملات الاجنبية: کرنسی کی تبدیلی کی صلاحیت۔تَحْوِيلَة جمع تَحَاوِيل: شاخ، چھوٹی شاخ، بغلی پٹری، سائڈنگ، بغلی نہر قینچی (ریلوے کا کانٹے بدلنے کی)۔مُحَاوَلَة جمع مُحَاوَلات: کوشش، جدوجہد، مصلحتوں سے رجوع، حکمت عملی، نئی ترکیب، ٹال مٹول، گول مول بات یا داؤ پیچ، چالیں، گول مول جواب دینا، حیلے بہانے کرنا۔مُحَاوَلَة عَلَى حياته: کو قتل کرنے کی کوشش، پر قاتلانہ حملہ۔اِحالَة: منتقلی، تفویض، پہنچانا، لیجانا، انتقال، ترسیل، ترسیل زر۔ـالی/علی: کی طرف بھیجنا، کے حوالے کرنا سپرد کرنا، روانہ کرنا، پہنچانا، ارسال کرنا۔ارسال، ترسیل، منتقلی (تجارت)، تفویض، حوالگی سپردگی، بیہودگی، لغویت۔بالاحالة عَلَى: کے متعلق۔قاضي الاحالة: سماعت کرنے والا مجسٹریٹ۔احالة الى (علی) المعاش اور احالة الى التقاعد: پنشن پر بھیجنا۔تَحَوُّل: تبدیلی، تبدیلیء صورت یا ہیئت، ایک قسم کی مقدار کی دوسری رقم میں تبدیلی، ٹھوس چیز کا سیال اور سیال کا گیس بن جانا۔قلب ماہیت، انقلاب، ایک چیز کا دوسری میں تبدیل ہو جانا، اچانک تبدیلی، ناگہاں موڑ، الٹ پلٹ، تغیر۔ـعن: سے انحراف، تجاوز، دستبرداری نقطة التحول: نقطہ، عروج، نقطہ تغیر، نقطہ، انقلاب، مڑنے کی جگہ۔تَحَيُّل: چالوں کا استعمال، دھوکا، فریب، دغا۔تَحَايُل و اِحتِيال: چالوں کا استعمال، دھوکا، فریب، دغا، حکمت، عیاری، ہوشیاری، چالاکی، مکاری، استادی، کینہ، بغض، عناد، دغا بازی، بے وفائی، غداری، فریب دہی، جل، دھوکا بازی۔تَحَايُلِي واحتيالي: مکار، فریبی، دغاباز دھوکے کا، فریب کا۔اِفلاس احتيالي: دھوکے کا دیوالیہ پن، دیوالہ۔اِسْتِحالَة: تبدیلی، تبدیلی صورت یا ماہیت، قلب ماہیت، انقلاب، موڑ، عبور، گزر تغیر، عشائے ربانی میں روٹی اور شراب کا گوشت اور خون بن جانا (مسیحیت میں)، عدم امکان امر محال، ناممکن ہونا، بعید از فہم و ادراک ہونا، لغویت، بیہودگی، نامعقولیت، خلاف فطرتی۔حائل جمع حَوَائِل دون: کے راستہ میں رکاوٹ۔ـ: آڑ، ناکہ، پردہ، تہ ہونے والا پردہ جمع حُوَّل: غیر مستقل، بے ثبات، تغیر پذیر، بدل دینے کے قابل، بدلنے والا، گھٹنے بڑھنے والا، اکثر بدلتا رہنے والا، کمزور، ناتوان، سست کاہل، زرد رو، بے نور، پھیکا، بے رونق، ماند پڑا ہوا۔مُحَوِّل جمع مُحَوِّلات: ٹرانسفارمر (بجلی کا)، تصدیق کنندہ مُحَوَّل عليه: مال کی وصولی پہ ادائیگی۔(Cash on delivery)۔مُحَوَّل به: جو مال کی وصولی پر لیا گیا ہو۔مُحِيل: منتقل کرنے والا، تفویض کنندہ۔مُحَال: ناقابل یقین، ناقابل تصور، بعید از قیاس، ناممکن، محال، لغو، بیہودہ، ناقابل حصول۔مُتَحَوِّل: قابل تبدیل، تبدیل ہونے والا تغیر پذیر، متلون۔الاعياد المتحولة: متحرک جشن۔مُحْتَال: ہوشیار، چالاک، عیار، چلتا پرزہ، فریبی، مکار، حیلہ گر، دغاباز، دھوکے باز جعلساز، ٹھگ، چالباز، ہتھکنڈی، بہروپیا، بدمعاش، لچا، شہدا، غنڈہ، بدذات، منتظم، کارکن، مختار۔مُحْتَال عليه: تفویض کردہ دعوی کا قرضدار، جس کے نام ملکیت منتقل کی جائے۔مُسْتَحِيل: ناممکن، لغو، بیہودہ، نامعقول، خلاف فطرت۔مُسْتَحِيلات: ناممکن چیزیں، باتیں، عدم امکانات، بیہودگیاں، لغویات، خرافات۔

حام: ۱۔حَامَ ـُ حَوْمًا و حَوَمَانًا على الشيء و حولهٔ: کے اردگرد پھرنا۔حولَ غَرَضِهِ و عليه: اپنی غرض طلب کرنا۔حَوَّمَ فی الامر: کام میں لگا رہنا۔الحُوم: سر کو چکرانے والی شراب۔حَوْمَة جمع حومات القتال: جنگ کا شدید مقام۔ـالبحر، ـالرمل و غیر ذلك: سمندر یا ریت وغیرہ کا بڑا حصہ۔ـالموتِ: موت کا حملہ۔

۲۔حَامَ ـُ حَوْمًا و حَوَمَانًا الرجلُ: پیاسا ہونا صفت: حائم جمع حُوَّم مونث حائمة جمع حَوَائم و حُوَّم۔

۳۔حَوْمَلَ حَوْمَلَةً: پانی اٹھانا۔الحَوْمَل: سیاہ بادل، صاف سیلاب۔

○ حَامَ ـُ حَوْمًا و حَوَمَانًا: ہوا میں چکر کاٹنا، منڈلانا منڈلاتے رہنا، پرواز کرنا (پرندے یا ہوائی جہاز کا)۔حول و علی: کے گرد منڈلانا، اڑنا، کے سر پر سوار رہنا۔حَامَتِ الشُّبْهَةُ ضِدَّهُ: شبہ اس پر پڑا، وہ مشتبہ ہوگیا۔حَوَّمَ: ہوا میں چکر کاٹنا، چکروں میں منڈلانا، پھرنا، گھومنا گردش میں آنا، (کے سر یا دماغ میں خیالات اور تصویروں کا) چکر کھانا، گھومنا۔ـفی: (کتاب میں) ادھر ادھر سے پڑھنا، (کتاب) کے متفرق حصے پڑھنا۔حَوْمَة جمع حَوْمات: لڑائی کا ہنگامہ، غل غپاڑے کا سب سے زیادہ ہنگامے والا حصہ، بڑا حصہ، جسم کا اصل حصہ، بیشتر حصہ، (شہر کا) ایک حصہ، محلہ۔

حون: تَحَوَّنَ الرجلُ: ذلیل ہونا، ہلاک ہونا۔

حوی: حَوِيَ ـَ حَوًى و اِحْوَوَى اِحْوِوَاءً و اِحْوَاوَى اِحْوِيوَاءً: سبزی مائل سیاہ یا سیاہی مائل سرخ ہونا صفت: اَحْوَى مونث حَوَّاء جمع حُوّ۔الحُوَّة: سبزی مائل سیاہی یا سیاہی مائل سرخی۔

حوى: ۱۔حَوَى ـِ حَوَايَةً و حَيًّا الشيءَ: کو جمع کرنا۔حَوَّى تَحْوِيَةً ه: پر قبضہ کرنا۔تَحَوَّى الشيءَ: پر قبضہ کرنا۔احْتَوَى اِحْتِوَاءً الشيءَ و عليه: کو جمع کرنا۔الحَاوِي مونث حَاوِيَة جمع حَاوِيَات و حَوَاوٍ (فا)۔الحَوِيّ: استحقاق کے بعد مالک ہونے والا۔الحَوِيَّة جمع حَوَايَا: الحَوِيّ کا مونث۔

۲۔حَوَى ـِ حَوَايَةً و حَيًّا الشيءَ: کو جمع کرنا۔تَحَوَّى: سکڑنا، گول ہونا۔الحَوِيّ: چھوٹا تالاب، حوض۔الحَوِيَّة جمع حَوَايَا: انتڑی، چھوٹا حوض۔

گھاس بھوسہ بھری ہوئی گدی جو اونٹوں کے کوہان کے اردگرد ڈالتے ہیں۔ اس سے یہ مثل مشہور ہے: المنايا على الحَوَايا: یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو خود اپنی موت کی کوشش کرے۔ الحِوَاء جمع اَحْوِيَة: پاس پاس واقع گھروں کا مجموعہ۔ الحَوَاء و الحَوَاة: آواز۔ الحاوِياء جمع حَاوِيَانَات و حَوَاوٍ: انتڑی۔

۳۔ تَحَوَّتِ الحَيَّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ الحَاوِی مونث حاوية جمع حاويات و حَوَاوٍ: سانپ پر منتر پڑھنے والا۔ الحَوَّاء: سانپوں کو جمع کرنے والا۔

○ حَوَى ـِ حَوَايَةً و حَيًّا ہ: کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، متحد کرنا، کو محصور کر لینا، کے گرد حلقہ ڈالنا، کو آغوش لینا، گلے لگانا، پر مشتمل ہونا، کو شامل ہونا، پر محیط ہونا، کا مالک ہونا، کو رکھنا، پر قابض ہونا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا۔ تَحَوَّى: کنڈلی مار کر بیٹھنا، چرمڑ ہو جانا، چڑمرانا، سمٹ سمٹا کر بیٹھنا۔ احتوى ہ/علی: کے گرد حلقہ ڈالنا، کو گلے لگانا، پر مشتمل ہونا، کو رکھنا، ملفوف کرنا، پر قابض ہونا، کا مالک ہونا۔ حَوِيَّة: بل کھاتے ہوئے ہونا، مقتول ہونا کنڈلی، کنڈل، بل، پیچ، کھونگھ، برقی تار کا لچھا، خم، حلقہ دار بال، گھنگھر یا چھلا۔ جمع حَوَايَا: انتڑیاں، آنتیں، احشاء کسی شئے کے اندرونی حصے۔ حَوَايَة جمع حَوَايَات: گول گدی جو سر یا پیٹھ پر بوجھ کو سہارا دیتی ہے۔ حاوٍ جمع حُوَاة: سپیرا، مداری، شعبدہ باز، جادوگر، مُحْتَوِيَات: مشمولات، مُحْتَوِيَاتُ النفوس: باطنی، پوشیدہ خیالات، دل کے راز۔

حیثُ: ظرف مکان مبنی بر ضمہ بمعنی: کہاں کجا، چونکہ کہا جاتا ہے: مِن هذه الحَيْثِيَة: اس وجہ سے، اس اعتبار سے حیث: زمانہ کے لئے بھی آتا ہے۔

○ حیثُ: جہاں (جگہ اور سمت)، جس جگہ، جہاں کہیں، چونکہ، کیونکہ، حالانکہ۔ حیثُ: کیونکہ، چونکہ، حیثُ كَانَ: جہاں کہیں بھی ہو، بہر صورت، بہر حال۔ الی حیثُ: جہاں (طرف) کہاں، اس جگہ جہاں۔ مِن حیثُ: جہاں سے، کہاں سے، جہاں، حالانکہ، ہرگاہ، جہاں تک اس کا تعلق ہے، کے بارے میں، کے متعلق، کے پیش نظر، کی وجہ سے، کے باعث۔ مِن حیثُ الثقافة: تعلیم کے بارے میں، جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے۔ من حیثُ یدری و لایدری: وہ اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جان بوجھ کر یا بے علمی میں۔ من حیثُ لا: کو کرتے، کہتے (وغیرہ) بغیر من حیثُ هــو: اسی حیثیت سے، بذاتہ، بنفسہ، بجائے خود۔ العالم من حیثُ هو: دنیا بجائے خود دنیا اسی حیثیت سے۔ من حیثُ ان: چونکہ، اس حقیقت کے پیش نظر کہ، تاکہ، جیسا کہ کانت من البرائة بحیثیت لاتری: وہ اتنی بھولی یا معصوم تھی کہ دکھ نہ سکی۔ بحیثُ لا: بشرطیکہ ...... نہ۔ بحیثُ ان: اس طرح کہ، تاکہ۔ حَیْثُمَا: جہاں بھی، کہیں بھی، جہاں کہیں، کہیں بھی حیثما اتفق: کہیں بھی، جہاں بھی یہ تھا یا ہو، اتفاقاً، اتفاق سے، یونہی، بے سوچے سمجھے۔ حیثیة جمع حیثیات: نقطہ نگاہ نقطہ نظر، زاویہ نگاہ، زاویہ نظر، رسائی، پہلو، احترام، لحاظ، مروت، پاس اونچی سماجی حیثیت، عظمت (جمع) قانونی وجوہات جن پر فیصلہ مبنی ہوتا ہے، رائے۔ ذوو الحیثیات (البارزة) یا اصحاب الحیثیات اصحاب الحیثیة: اونچی سماجی حیثیت کے لوگ، ممتاز لوگ۔ من الحیثیة الحیوانیة: حیوانیاتی نقطہ نظر سے۔

الحِیثِیُّون: حتی لوگ (the hitties)۔

حیجاج: حَاجَ ـِ حَیْجاً: محتاج ہونا۔ اَحَاجَ و اُحْیِجَ المكانُ: جگہ کا کانٹے اگانا۔ الحَاج (ن): کانٹے، یا ترش پودے۔

حاد: ۱۔ حَادَ ـِ حَیْداً و حَیَدَاناً و مَحِیْداً و حَیْدَةً و حُیُوداً و حَیْدُودَةً عن الطریق: راستے سے ہٹنا الگ ہونا۔ حَیَّدَهُ: کو ایک طرف کر دینا۔ ـ السیرَ: تسمہ میں گرہ لگانا، حَایَدَ مُحَایَدَةً و حِیَاداً ہ: سے ایک جانب ہونا، علیحدہ ہونا۔ الحَیْدُ جمع حُیُود و حِیَد و اَحْیَاد: چیز کا اٹھا ہوا اور ابھرا ہوا حصہ۔ پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا کنارہ۔ ـ و الحَیُّودَة: پہاڑی بکرے کے سینگ کی گرہ۔ المَحِیْد: راستہ سے الگ ہونے کی جگہ۔ الحَیْدَی: متکبرانہ چال الحیدان: وہ کنکر، پتھر جو جانور کے چلنے سے اڑتے ہیں۔

۲۔ الحَیْد و الحِیَد: مثل نظیر۔

○ حَادَ ـِ حَیْداً و حُیُوداً و حَیَدَاناً و مَحِیْداً عن: سے منحرف ہونا، تجاوز کرنا، انحراف کرنا، باز رہنا، کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، چھوڑ بیٹھنا، حَادَ بِهِ عن: کو سے باز رہنے کو کہنا، کو سے دور کرنا۔ ـ الی/ نحو: کی طرف مائل ہونا، کی طرف میلان ہونا، رخ ہونا، باہم مل جانا۔ حَیَّدَ ہ: کو ایک طرف رکھنا، حَایَدَ ہ/ ہ: سے دور رہنا علیحدہ اور جدا رہنا، سے پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، بچنا، کنی کترانا، احتراز یا گریز کرنا، حذر کرنا۔ انحاد عن: سے منحرف ہونا، انحراف کرنا، ہٹ جانا۔ حَیْد و حَیَدان: انحراف، تجاوز، ایک طرف ہونا، دور ہونا۔ حَیْدَة (راستے) سے ہٹنا، غیر جانبداری، عَلی حَیْدَة: ایک طرف، ایک جانب، جدا، علیحدہ، الگ۔ مَحِیْد عن: سے احتراز، گریز، کنارہ کشی۔ لامحید عنه: یہ ناگزیر ہے۔ حِیَاد: غیر جانبداری۔ علی الحِیَاد: غیر جانبدار حیاد عن الخط: (گاڑی وغیرہ کا) پٹری سے اتر جانا۔ حِیَادِی: غیر جانبدار۔ مُحَایَدَة: غیر جانبداری۔ حَائِد: غیر جانبدار۔ مُحَایِد: غیر جانبدار۔ المُحَایِدُون: غیر جانبدار (لوگ وغیرہ)۔

○ حیدر آباد: حیدرآباد (ایک شہر کا نام)

حار: ۱۔ حَارَ ـَ حَیْراً و حَیَراً و حَیْرَةً و حَیَرَاناً الرجلُ: (کی) نظر کا چکا چوند ہونا، راستہ گم کر دینا۔ فی امره: اپنے معاملہ میں حیران ہونا، صفت: حیران مؤنث حَیْرَی جمع حَیَارَی و حُیَارَی۔ حَیَّرَهُ: کو حیرت میں ڈالنا۔ تَحَیَّرَ و اسْتَحَارَ: حیرت میں پڑنا۔ المحائر جمع حُوْرَان و حِیرَان: (فا)۔ المِحْیَار: بہت حیران المُسْتَحِیر صحرا کے عرض میں راستہ جس سے نکلنے کی جگہ کا پتہ نہ لگے۔ المُتَحَیِّرات: واحد مُتَحَیِّرَة (فک): سیارے۔

۲۔ حَارَ ـَ حَیْراً و حَیَراً و حَیْرَةً و حَیَرَاناً الماءُ: پانی کا بند ہونے سے چکر لگانا۔ تَحَیَّرَ الماء: بمعنی حار الماء ـ المكانُ بالماء: جگہ کا پانی سے بھر جانا۔ اِسْتَحَارَ السحابُ: بادل کا بے حرکت ہونا، کسی طرف نہ جانا۔ الحائر جمع حُوْرَان و حِیرَان: پانی جمع ہونے کی جگہ، کنارے اٹھی ہوئی نشیبی زمین۔ الحَیْر: باغ۔ الحَیْرُ و الحِیَرُ: بہت مال و اہل۔ کہا جاتا ہے: لا آتیه حِیَرَ دَهْرٍ: میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ المَحَارَة: پانی جمع ہونے کی جگہ المُسْتَحِیر: بوجھل و بے حرکت بادل جس کو ہوا نہ چلائے۔

۳۔ استحارَ المكان و بالمكان: کسی جگہ کئی دن فروکش رہنا۔ المَحْیَر: حفاظت، دفاع، جائے امن۔ الحارة: محلہ۔

۴۔ المَحَارَة جمع مَحَار: سیپی۔ المحارتان (ع ا): سرین کے وہ دونوں گول سرے جن میں رانوں کے سرے گھومتے ہیں۔

○ حَارَ ـَ حَیْرَةً، حَیْراً و حَیَرَاناً: بوکھلا جانا۔ ـ فی: میں بے بس ہونا یا ہو جانا، کے متعلق کچھ نہ جاننا۔ ـ: ہچکچانا، پس و پیش کرنا۔ ـ بین ... و بین: کے مابین انتخاب سے عاجز رہنا۔ حارَ فی امره: کے بارے

میں بوکھلانا چکرانا، پریشان ہونا، حواس باختہ ہونا، خوف زدہ ہونا، بدحواس ہونا۔ حَیَّرَہٗ: کو بوکھلا دینا، چکرا دینا، گمراہ کرنا، پریشان یا حواس باختہ کرنا، دم بخود کر دینا، گھبرا دینا، الجھانا، پریشان کرنا۔ تَحَیَّرَ: بوکھلا جانا، -فی: سے خوف زدہ ہوجانا، گھبرا جانا، ڈر جانا، متحیر ہونا، حیران و پریشان ہونا۔ -فی: کے بارے میں بدحواس ہوجانا۔ -بین: کے مابین بے یقینی سے پیش وپیش کرنا۔ تَحَیَّر فی امرہ: میں بوکھلا جانا، بدحواس ہوجانا، گھبرا جانا۔ اِستحارَ: بمعنی تَحَیَّرَ، حَیْر: باغیچہ جس کے گرد باڑہ لگائی گئی ہو، چار دیواری۔ حَیْرُ الحَیوان: جانورں کا باغ، چڑیا گھر۔ حَیْرَۃ: بوکھلاہٹ، پریشانی، الجھن، الجھاؤ، حیرانی گھبراہٹ، بے بسی، لاچاری، بےبسی، فی حیرۃ: پریشان، گھبرایا ہوا، الجھن میں، بدحواس، بے بس، لاچار۔ حَیْران مونث حَیْریٰ جمع حَیاریٰ: بوکھلایا ہوا پریشان، خوف زدہ، گھبرایا ہوا، حواس باختہ دم بخود، حیران، بدحواس، غیر یقینی، بے بس، لاچار، جھمپنے والی، شرمیلی (مسکراہٹ) الجھے ہوئے بے ربط بے جوڑ، بے ترتیب، بکھرے ہوئے (الفاظ وغیرہ) تَحَیُّر: بوکھلاٹ، پریشانی، الجھن، الجھاؤ حیرانی، گھبراہٹ، بےبسی، لاچاری، بےبسی۔ حائِر: پریشان، حیران، بوکھلایا ہوا، چکرایا ہوا بہکا ہوا، بدخواس، خوف زدہ، گھبرایا ہوا۔ -فی: کے بارے میں بوکھلایا ہوا، غیر یقینی - راہ راست سے ہٹا ہوا، گمراہ، غلط راستے پر، بھولا ہوا، بھٹکا ہوا، گم کردہ راہ۔ حائر فی امرہ: بوکھلایا ہوا، چکرایا ہوا، بہکا ہوا، پریشان، حواس باختہ، بےبس، لاچار۔ مُحَیَّر: پریشان، بدحواس، بےبس، لاچار، مُتَحَیِّر و مُحْتار بمعنی حائِر۔

حاز: حَازَ - حَیْزاً الابلَ: اونٹوں کو ہانکنا۔ تَحَیَّزَ الشیءُ: ایک ہی جگہ منحصر ہونا۔ ت الحیّۃُ سانپ کا کنڈلی مارنا۔ الحَیِّز: دیکھو حوز۔

حاس: ا۔حَاسَ - حَیْساً الشیءَ: کو ملانا۔ - ر حَیَّسَ الحَیْسَ: حیس بنانا۔ الحَیْس (ط): کھجور، گھی اور ستو سے تیار کیا ہوا کھانا۔ المَحْیُوس: جس کا باپ غلام اور ماں لونڈی ہو۔ غلام زادہ۔

۲۔حاسَ - حَیْساً الحبلَ: رسی بٹنا۔ الحَیْس: کچاردی کام۔

۳۔حِیْسَ حَیْسُهم: کی ہلاکت کا قریب آنا۔

حاش: ا۔حَاشَ - حَیْشاً: کو گھبراہٹ میں ڈالنا۔ منہ: سے گھبرانا۔ - الرجلُ: گھبراہٹ سے سکڑ کر جلدی کرنا۔ تَحَیَّشَ: گھبرانا۔ الحَیْشان: بہت گھبرانے والا، خوف زدہ۔

۲۔حَاشَ - حَیْشاً الوادی: وادی کا دراز ہونا۔

حاص: حَاصَ - حَیْصاً و حَیْصَۃً و حُیُوصاً و مَحِیصاً و حَیَصاناً و اِنحاصَ و تَحَایَصَ عن کذا: سے الگ ہونا۔ ہٹنا، بچنا۔ کہتے ہیں: من حاص عن الشر سلم: جو برائی و شر سے الگ رہا وہ محفوظ رہا۔ حَایَصَہٗ: پر غالب آنا، کو فریب دینا۔ حَیْصَ بَیْصَ: پیچیدگی یا شدت و تنگی۔ کہا جاتا ہے: وقع فی حَیْصَ بیصَ یا فی حِیصَ بیصَ: وہ ایسی پیچیدگی میں پھنسا کہ جس سے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں۔ المَحِیص: بھاگنے کی جگہ، پناہ۔ کہا جاتا ہے۔ لا مَحِیصَ له من هذا الامر: اس کے لئے اس معاملہ سے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ الحَیُوصُ من الدواب: بدکنے والا جانور جو اس راستہ سے ہٹ جائے جس پر اس کا مالک اسے چلانا چاہتا ہے۔

○ حاصَ - حَیْصاً و حَیْصَۃً و مَحِیصاً عن: سے بھاگنا فرار ہونا، بھاگ جانا، کو چھوڑ کر بھاگ جانا۔ اِنحاصَ: یہی معنی جو حَاصَ عن کے ہیں۔ حَیْص و حَیْصَۃ: فرار، نجات، چھٹکارا۔ وَقَعَ فِی حَیْصَ بَیْصَ: مشکلات سے دوچار ہونا، بڑی مشکل یا پریشانی میں پھنس جانا۔ مَحِیص: فرار، نجات، چھٹکارا، جائے پناہ، ما عنہ محیص: یہ ناگزیر ہے۔ لم یکن لهم محیصٌ من ان: وہ صرف یہ کر سکے، ان کے پاس اس کے سوائے کوئی متبادل صورت نہیں تھی۔

حاض: حَاضَ - حَیْضاً و مَحِیضاً و مَحَاضاً و حَیَّضَت المراۃُ: عورت کو حیض آنا، ماہواری آنا صفت: حائِض و حائِضَۃ جمع حُیَّض و حَوَائِض، حَیَّضَ الماءَ: پانی بہانا۔ الحِیاض: حیض کا خون۔ الحِیضَۃ و المِحیَضَۃ: حیض کا چیتھڑا۔

حیع: حَیْعَلَ المؤذّنُ: مؤذن کا: حیّ علی الصلوۃ۔ حیّ علی الفلاح کہنا۔

حاف: ا۔حَافَ - حَیْفاً علیه: پر ظلم کرنا زیادتی کرنا، صفت: حائِف جمع حُیَّف و حُیُف و حافۃ: الحائِف جمع حافَۃ و حُیَّف و حُیُف (فا): ظالم، زیادتی کرنے والا۔

۲۔ تَحَیَّفَ الشیءَ: چیز کو اطراف سے گھٹانا۔ حائِف الجبل: پہاڑ کا کنارہ۔ الحِیفۃ جمع حِیَف: کنارہ، گوشہ۔

۳۔ الحِیفۃ: قمیص کے دامن میں لگایا ہوا پیوند، شکار کے واسطے ہنکایا ہوا جانور۔ الاحْیَف مونث حَیْفاء من الامکنۃ: وہ جگہ جہاں بارش نہ ہو۔

○ حافَ - حَیْفاً علی: سے ناانصافی کرنا، سے ظلم کرنا کو نقصان پہنچانا، کسی چیز کو محدود کرنا، مختصر کرنا کم کرنا، کمزور کرنا، کسی جگہ پر بے جا مداخلت کرنا، پر غاصبانہ قبضہ کرنا۔ تَحَیَّفَ ہ / من: پر مداخلت بیجا کرنا، پر قبضہ غاصبانہ کرنا، کو نقصان پہنچانا، کمزور کرنا، حَیْف: ظلم، ناانصافی، تکلیف، نقصان، حیف علیه: کتنی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ لاحیف به: یہ بے جا نہیں ہے، یہ نہایت مناسب ہے۔

○ حَیْفاء: حیفا (شمال غربی اسرائیل کی بندرگاہ)۔

حاق: ا۔حَاقَ - حَیْقاً و حُیُوقاً و حَیَقاناً به: کو گھیرنا، کا احاطہ کرنا۔ ـــ بهم العذابُ: پر عذاب نازل ہونا۔ اَحَاقَ به: کو گھیرنا، کا احاطہ کرنا۔ - الشیءَ بکذا: کو پر گرانا۔ اِحْتَاقَ علی الشیء: کی احتیاط کرنا۔

۲۔حَاقَ - حَیْقاً و حُیُوقاً و حَیَقاناً فیه السیفُ: میں تلوار کا اثر کرنا، نشان ڈالنا۔

۳۔حَاقَ - حَیْقاً و حُیُوقاً و حَیَقانا بهم الامرُ: پر امر لازم ہونا، واجب ہونا۔ الحَیْق: مکافات عمل، کام کا برا نتیجہ۔

۴۔حَایَقَ مُحَایَقَۃً ہٗ: سے حسد کرنا، بغض کرنا۔ الحَیْقَل: خیر و بھلائی سے خالی آدمی۔

○ حَاقَ - حَیَقاب: کو گھیرنا، گھیرے میں لینا، کو چاروں طرف سے نرغے میں لینا، کا محاصرہ کرنا، پر سزا آپڑنا، نازل ہونا، پر واقع ہونا، گرنا، کو جالینا، جا پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، قبضہ میں کر لینا، مغلوب کرنا، سر کرنا، زیر کرنا، -فی: تلوار کا جسم میں گھس جانا اثر کرنا، کو چھیدنا، - فی: کسی چیز یا شخص پر اثر کرنا، اثر ڈالنا، دباؤ ڈالنا، اَحَاق ب: کو گھیرنا، چاروں طرف سے نرغے میں لینا۔ - ب ہ: پر کچھ گرانا۔ ہ ب: کو پر گرانا۔ حَیْق: نتیجہ، انجام، برے کام کا اثر۔

حاك: ا۔حَاكَ - حَیْکاً و حَیَکاناً: متکبرانہ چال چلنا، اینٹھ کر چلنا، صفت: حائِك و حَیَّاك مؤنث حَیَّاکۃ و حیکانۃ و حَیَکیٰ، مشیۃ حیکی: متکبرانہ چال۔

۲۔حَاكَ - حَیْکاً و حَیَکاناً و اَحَاكَ السیفُ: تلوار کا کاٹنا۔ - السیف او الکلامُ فیه: تلوار یا کلام کا کسی میں اثر کرنا۔

۳۔ اِحْتَاكَ احتیاکاً بثَوبه: کپڑے میں لپٹنا، چھپنا۔

حال: ا۔حَالَ حُیُولاً الشیءُ: متغیر ہونا بدل جانا۔

۲- حَالَ ـ حُیُولاً الماءُ: پانی کا وادی میں جمع ہونا۔ الحَیْل جمع اَحْیَال و حُیُول: وادی کے بطن میں جمع شدہ پانی۔

۳- الحَیْل جمع اَحْیَال و حُیُول: قوت۔ الحَیْلَة: ہوشیاری، دور بینی، کاموں میں تصرف کی قوت، بھیڑوں اور بکریوں کا ریوڑ۔ الحِیْلَة جمع حِیَل: تصرف کی قوت، ہوشیاری، دور بینی۔ الاَحْیَل و الاَحْوَل: بہت حیلہ باز۔ الحِیلان (ن): غلہ گاہنے کا آلہ۔

حان ا- حانَ ـ حَیْناً و حَیْنُونَةً الشیءُ: کا وقت قریب آنا۔ ـ لہ ان یفعل کذا: کے کام کرنے کا وقت کا قریب آنا۔ ـ السنبلُ: بالی کا خشک ہونا اور اس کی کٹائی کا وقت قریب آنا۔ حَیَّنَ هٗ: کا وقت مقرر کرنا، حَایَنَ هٗ: سے وقت معین کرنے کے لئے معاملہ کرنا۔ اَحْیَنَ اِحْیَاناً الرجلُ او الشیءُ: کا وقت آپہنچنا، ـ بالمکان: کچھ دیر کے لئے کسی جگہ قیام کرنا۔ تَحَیَّنَ منه غَفْلَةً: کی غفلت کی تاک میں رہنا۔ کہا جاتا ہے: ہو یتحین طعام الناس: وہ لوگوں کے کھانے کے وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اِسْتَحْیَنَ: مناسب وقت کی امید رکھنا۔ الحِیْن جمع اَحْیَان جج اَحَایِین: وقت۔ مدت الحِیَنة و المَحْیَان: وقت۔

۲- حَانَ ـ حَیْناً و حَیْنُونَةً فلانٌ: ہلاک ہونا یا رنج و مشقت میں پڑنا۔ اَحَانَ هُ اللّٰهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہلاک کرنا۔ الحَیْن: ہلاکت، رنج و محنت۔ الحان و الحَانة: شراب بیچنے کی دکان۔ الحَائِنَة جمع حَوائن: مصیبت۔

۳- حَانَ ـ حَیْناً و حَیْنُونَةً الرجلُ: توفیق سے محروم ہونا۔ حَیَّنَ اللّٰهُ فلاناً: اللہ تعالیٰ کا کسی کو نیکی کی توفیق نہ دینا۔ تَحَیَّنَ: توفیق و ہدایت سے محروم ہونا۔ الحائن: احمق۔

○ حَانَ ـ حَیْناً: (وقت) کا قریب آنا، آنا، آپہنچنا، اتفاقاً واقع ہونا۔ حَانَ الوقتُ: (صحیح) وقت آگیا ہے۔ اب اس کا وقت ہے۔ حَانَ لہ ان: اس کے لئے وقت آگیا ہے کہ وہ ...... اَمَا حَانَ لهم اَن یفهموا؟: کیا وہ ابھی تک نہیں سمجھے؟ حانت منی التفاتة الی: اتفاق سے میری نظر اس پر پڑی۔ حَیَّنَ هٗ: کے لئے وقت مقرر کرنا۔ اَحَانَ هٗ: کو تباہ کرنا، کا نام و نشان مٹا ڈالنا۔ تَحَیَّنَ هٗ: کا (وقت یا موقع کا) انتظار کرنا۔ تَحَیَّنَ الفرصةَ: موقع کا انتظار کرنا، موقع کی تاک میں رہنا، ہونا۔ اِسْتَحْیَنَ: مناسب وقت کا انتظار کرنا۔ حَان: ہوٹل کی شراب گاہ، بار، شراب خانہ، مے خانہ۔ حَانَة جمع حَانَات: ہوٹل کی شراب گاہ، شراب کی دکان، شراب خانہ، کلال خانہ، کھانے پینے اور شراب کی دوکان، شراب پینے کا کمرہ، قیام و طعام گاہ جہاں شراب بھی بکتی ہے۔

حَیْن: موت، تباہی۔ حِیْن جمع اَحْیَان و احایین: وقت، سازگار وقت موافق وقت، اچھا وقت، موقع، حِینَ: کے وقت، پر، اس وقت جب، جب، جیسے ہی۔ حِیناً: کچھ وقت کے لئے ایک بار، ایک دن۔ اَحْیَاناً: گاہے گاہے، کبھی کبھی، خاص موقع پر، بعض اوقات، وقتاً فوقتاً۔ حِیناً ـ حِیناً: بعض اوقات ...... بعض اوقات، گاہے گاہے، فی الاحایین: گاہے گاہے، بعض اوقات، گاہے ماہے، کبھی کبھی۔ فی بعض الاحیان (احایین) اور بعضَ الاَحیان: بعض اوقات، گاہے بگاہے، کبھی کبھی، وقتاً فوقتاً، کبھی کبھار۔ فی اَغْلَب الاحیان: عموماً، عام طور پر، بالعموم، زیادہ تر، بیشتر، اکثر و بیشتر، اکثر صورتوں میں۔ الی حین: کچھ وقت تک، اس دوران میں اس اثنا میں، فی الحال۔ فی حینه: تب، اس وقت، اس کے وقت میں، مناسب وقت میں، مقررہ وقت پر۔ ذالحین: ابھی، ابھی ابھی، ذرا سی دیر پہلے۔ مِن ذلك الحین: اس وقت سے، الی ذلك الحین: اس وقت تک۔ فی حین: حالانکہ، ہرگاہ۔ فی حین ان اور علی حین ان: اسی وقت جب، حالانکہ کے دوران میں علی حینِ هُمْ یَزْعُمُون: حالانکہ، دوسری طرف انکا دعویٰ ہے، دعویٰ کرتے ہیں۔ حِیناً بعد حِینٍ، بین حین و حین، من حین الی حین، من حین لِآخَر اور بین حین و آخر: وقتاً فوقتاً، کبھی کبھی، کبھی کبھار۔ حِینَئِذٍ: اس وقت، تب، اس دن، حِینَذَاكَ: اس وقت، تب، اس دن۔ حِینَمَا: کے دوران میں، جب، چونکہ۔

حیی: ا- حَیِیَ ـ حَیَاةً: زندہ رہنا (ادغام کے ساتھ حَیَّ یَحْیِیُ بھی اس معنی میں ہے)۔ حَیَّا تَحِیَّةً هٗ: کو حَیَّاكَ اللّٰهُ کہنا یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے۔ ـ هُ اللّٰهُ: اللہ اس کو باقی رکھے، حَایَا مُحَایَاةً الصبیَّ: بچہ کو غذا دینا۔ ـ النارَ: آگ سلگانا۔ اَحْیَاهُ: کو زندہ کرنا، ـ النارَ: پھونک مار کر آگ سلگانا۔ ـ الارضَ: زمین کو سرسبز بنانا۔ ـ الرائدُ الارضَ: گھاس پانی تلاش کرنے والے کا زمین کو سرسبز پانا۔ وَاسْتَحْیَاهُ: کو زندہ چھوڑنا۔ الحَیّ: زندہ (نسبت کے لئے حَیَوِیّ کہا جاتا ہے: لایعرف الحیَّ من اللیّ: وہ بیوقوف ہے۔) محلہ، قبائل عرب میں سے چھوٹا قبیلہ۔ الحَیَا و الحَیَاء: تروتازگی، بارش، سبزی۔ الحیاة: زندگی۔ الحَیَّة: الحیّ کا مؤنث۔ جمع حَیَّات و حَیَوَات (ح): سانپ (مذکر و مؤنث) ارض حَیَّة: سرسبز و شاداب زمین۔ الحَیُّوت: نر سانپ۔ المَحْیَا جمع مَحَایٍ: زندہ رہنے کی جگہ، زندگی الحَیَوَان جمع حیوانات (ح): جاندار، جانور۔ حیوانات العصر الحجری: پتھر کے زمانہ کے جانور۔ حیوانات افریقیا: افریقہ کے جانور۔

۲- حَیِیَ ـ حَیَاءً منه: سے شرمندہ ہونا، شرمانا۔ حَایَا مُحَایَاةً زیداً: زید کو شرم و غیرت دلانا۔ اِسْتَحْیَاهُ و منه: سے منقبض ہونا، سے رکنا۔ واِسْتَحی منه: سے شرمانا، شرمندہ ہونا۔ الحیا: شرم و حیا، توبہ، کسی چیز سے منقبض ہونا اور ملامت کے خوف سے اس کو چھوڑ دینا۔ الحَیِیّ و الحَیّ: شرمیلا، حیادار۔ المُسْتَحِیَة (ن): چھوئی موئی۔

۳- حَیِیَ ـ حَیَاءً الطریقُ: راستہ کا نمایاں ہونا۔

۴- حَیَّا تَحِیَّةً هٗ: کو سلام کرنا۔ المُحَیَّا: چہرہ۔

۵- حَیَّا: قریب ہونا، کہا جاتا ہے: حَیَّا الخمسین، من عمرہٖ: وہ پچاس کے قریب عمر کو پہنچا۔

۶- اَحْیَا اللیلَ: رات کو جاگتے رہنا، جاگ کر رات گزارنا۔

۷- حَیَّ و حَیَّ هَلًا و حَیَّهَلْ: اسم فعل بمعنی متوجہ ہو، جلدی کرو، کہا جاتا ہے: حَیَّ علی الصلاة: نماز کے لئے آؤ۔ یہ اسم فعل امر کے معنی میں فتح پر مبنی ہے۔ حَیَّ هَلْ بفلان: فلاں کو بلاؤ۔

○ علم الاحیاء: حیاتیات۔ عالِمُ الاحیاء: ماہر حیاتیات۔ اِحْیائی: حیاتیاتی۔ اِحْیائِیُّون: ماہر حیاتیات۔ کیمیاء اِحیائیة: حیاتیاتی کیمیا، (bio chemistry) قلیل الحیاء: بے شرم، بے حیاء۔ قلة الحیا: بے شرمی، بے حیائی۔ احیا السَّهرة: شام کو محفل میں تمثیل پیش کرنا، گانا یا کرتب دکھانا، کسی کھیل میں کردار ادا کرنا۔ احیا حفلةً: فنکار کا کسی تقریب میں اپنا فن پیش کرنا۔ احیا الذکری (کسی مرنے والے کی) برسی منانا۔ اَحْیَا اللیلَ صلاةً: رات نماز پڑھتے گزارنا۔ تحیةً لِذِکْرَاهُ: کی یاد میں۔

خ

خ تلفظ خا، حروف تہجی کا ساتواں اور حروف ابجد میں ۶۰۰ کا حامل ہے۔ حروف حلقیہ سے ہے۔

خب ۱۔ خَبَّ ـُ خَبّاً النباتُ: پودے کا اونچا ہونا۔

۲۔ خَبَّ ـُ خَبّاً الرجلُ: اپنی چیز کو روکنا۔ بخل سے زمین کے نشیب میں جانا تاکہ اس کا پتہ نہ لگے کہ کہاں ہے۔ الخب جمع خُبُوب: فتنہ و فساد۔

۳۔ خَبَّ ـُ خَبًّا و خَبِيبًا و خَبَبًا و اِخْتَبَّ الفرسُ فی عدْوِہ: گھوڑے کا دوڑنے میں کبھی اگلی ٹانگوں پر کھڑا رہنا کبھی پچھلی پر اس سے ضرب المثل ہے۔ اِمَّا خَبَّتْ و اِمَّا بَرَكَتْ: وہ یا تو تیز دوڑی یا بیٹھ ہی گئی۔ اس شخص کے متعلق بولی جاتی ہے جو کبھی تو بھلائی میں انتہا کر دے اور کبھی برائی میں اور یوں دونوں میں انتہا کو پہنچ جائے۔ اَخَبَّ الفرسَ: گھوڑے کو دوگام چلانا۔ الخَبَب (مص): دوڑ کی ایک قسم (کہا جاتا ہے۔ مَشٰی خَبَبًا: وہ ایک چال چلا۔): تیز رفتاری۔

۴۔ خَبَّ ـُ خِبًّا و خِبَابًا البحرُ: سمندر کا چڑھنا، اُمنڈنا، متلاطم ہونا، موجزن ہونا، چڑھنا اور اترنا، ابھر کر گرنا، طوفانی ہونا، طوفان خیز ہونا، الخِبّ: سمندری طوفان، کہتے ہیں: اَصَابَهُمْ خِبٌّ: ان کو آندھی کے جھونکوں اور موجوں کے تھپیڑوں نے گھیر لیا۔

۵۔ خَبَّ ـَ خَبًّا و خِبًّا: دغاباز و مکار ہونا۔ خَبَّبَ هُ: کو دھوکا دینا، خراب کرنا کہا جاتا ہے۔ خَبَّبَ علی فلان صدیقَهُ: اس نے فلاں کے دوست کو خراب کر دیا۔ الخَبّ جمع خُبُوب (مص): دغاباز، الخَبَّاب: دغاباز۔

۶۔ خَبَّبَ لحمُهُ: کا گوشت کے کم ہونے کی وجہ سے اس کی کھال پر جھریاں پڑنا۔ الخُبَّة: گوشت کا ایک پارچہ الخَبِيبَة جمع خبائِب: گوشت کا ایک پارچہ۔

۷۔ الخَبّ جمع خُبُوب و اَخْباب: نشیب میں واقع چھپی ہوئی زمین، درخت کی چھال الخَبّ جمع خُبُوب: ریت کا لمبا قطعہ۔ دو سخت زمین کے ٹکڑوں میں نرم زمین کا قطعہ۔ الخَبَّة: پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔ و المَخَبَّة: وادی کی گہرائی یا وادی کا درمیانی حصہ۔ الخبَّة (بتثلیث الخاء): ریت کا لمبا قطعہ یا بدلی کی دھاری، پٹی کی طرح کا کپڑے کا ایک چیتھڑا۔ الخَبَب: شعر کی ایک بحر۔ ثوبٌ خِبَبٌ و خَبَائِبُ و اَخْباب: پھٹا پرانا کپڑا۔ الخَبِيبَة جمع خَبائِب: وادی کا درمیانی حصہ۔

۸۔ خَبْخَبَ هُ: سے معذرت کرنا، کو معاف کرنا۔ ـــ الرجُل: ڈھیلے پیٹ والا ہونا۔ تَخَبْخَبَ بدنهُ: کے بدن کا موٹاپے کے بعد دبلا و لاغر ہونا۔ ـــ الشیءُ المضطربُ: ہلتی چیز کا ڈھیلا ہونا۔ الحرُّ: گرمی کی شدت کا کم ہونا۔

○ خاء: خ کا نام۔

○ خاتون جمع خواتین: خاتون، سماج کی ممتاز عورت، بیگم زَهْرَةُ الخاتون: لق و دق صحراء کا چھوٹا نیلے رنگ کا پھول۔

○ خاخام: حاخام، ربی (یہود کا دینی پیشوا)۔

○ خارَصِين و خارَصِينی: جست (Zinc)۔

○ خازُوق جمع خَوازِيق: کھمبا، نوکدار بلّی، گندی چال۔ هذا خازوق: یہ سخت نصیبہ ہے۔

○ خاقَان جمع خَواقِين: سب سے بڑا سردار، حاکم، فرمانروا بادشاہ شہنشاہ۔

○ خاکِی: خاکی (رنگ)

○ خام: خام، جس سے کام نہ لیا گیا ہو، جس سے کوئی چیز نہ بنائی گئی ہو، جسے کمایا نہ گیا ہو، جسے رنگا نہ گیا ہو (چمڑا، کھال) سن کا، کتان کا، سوتی (کپڑا) جمع خامات: خام مال ناتجربہ کار، کچا، غیر تربیت یافتہ، غیر کاریگر، سیدھا ساد، سادہ لوح، گنواروں کا سا، گنوار، اجڈ جمع خامات: خام اشیاء جلود خام: کچا چمڑا، خیوط خام خام ریشے، زیت خام: غیر صاف شدہ تیل، کروڈ آئل، سُکَّر خام: کچی شکر، المُوَاد الخام: خام اشیاء۔

○ خان جمع خانات: ہوٹل، کارواں سرائے، سرائے، مسافر خانہ، بھٹیار خانہ، قیام و طعام گاہ، قیام گاہ جہاں شراب بھی ملتی ہے۔ شراب خانہ، کلال خانہ، کھانے پینے اور شراب کی دوکان، الخان الخَلِيلِی: قاہرہ کا ایک ضلع، (آرٹ، تجارت اور بازاری سرگرمی کا مرکز) خان يُونِس: غازہ سیکٹر کا ایک شہر۔ خانَة جمع خانات: اخبار کا کالم، (شطرنج کی بساط کا) مربع۔

○ خَبَّ ـُ خَبَباً و خَبَباً و خَبِيبًا: دوگامہ یا دلکی چال چلنا، دلکی چلنا (گھوڑے کا)، گرتے پڑتے چلنا، جھوم کر چلنا، سرگشت کرنا، ٹہلتے پھرنا، ٹہلنا۔ ـ فی: (ریت میں) دھنسنا۔ ـ ـُ خَبًّا: سمندر کا جوش میں آنا، موجیں مارنا، متلاطم ہونا، طوفانی ہونا، طوفان خیز ہونا، چڑھنا، امنڈنا، موجزن ہونا۔ طوفان خیز ہونا، چڑھنا، امنڈنا، موجزن ہونا۔ چڑھنا اور اترنا۔ ـ ـُ خَبًّا: سمندر کا طوفانی ہونا، امنڈنا، چڑھنا اترنا، موجزن ہونا۔ تَخَبَّبَ و اِخْتَبَّ: دوگامہ یا دلکی چال چلنا، دلکی چلنا۔ خبب: دوگامہ، سبک خرامی، دلکی، دلکی چال۔ خَبّ و خِبّ: سمندر کا اتار چڑھاؤ، تموج، تلاطم، موجزن ہونا، طوفانی ہونا۔ طوفانی یا طوفان خیز

سمندر۔ خَبّ: فریبی، دغاباز، جھوٹا دعوے دار، ٹھگ دھوکے باز، عیار۔

خبا: ۱۔ خَبَأَ ـَ خَبْأً و خَبَّأَ الشیءَ: کو چھپانا۔ اِخْتَبَأَ منه: سے چھپنا۔ ـــ الشیءَ: کو چھپانا۔ کہا جاتا ہے: اِخْتَبَأَ له خبیئاً: اس نے اس سے کوئی چیز چھپا کر اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ الخَبْء و الخَبِیء: پوشیدہ یا چھپائی ہوئی چیز۔ الخَبْءُ من الارض: زمین کی نباتات، روئیدگی۔ ـــ من السماء: بارش، کہتے ہیں: اخرج خَبْءُ السماء خَبْءَ الارض: آسمان کی بارش نے زمین پر روئیدگی پیدا کی۔ الخِباء جمع اَخْبِیَة: اونٹوں کی پشم، اون یا بالوں کا خیمہ۔ (ز): چھلکا، پوست، بھوسی، چھال۔ الخَبِیئة جمع خَبَایا: پوشیدہ رکھی ہوئی چیز۔ الخُبْأَة: بنی۔ المَخْبَأ جمع مَخَابِئ: چھپنے کی جگہ۔ الخَابِئة و الخَابِیَة جمع خَوَابٍ و خَوَابِی: بڑا مٹکا۔ بنت الخَابِیَة: شراب۔

۲۔ خَابَأَهُ: سے پہیلی کہنا۔

○ خَبَأَ ـَ خَبْأً و خَبَاء: کو چھپانا۔ تَخَبَّأَ: چھپنا، اپنے آپ کو چھپانا۔ اِخْتَبَأَ: چھپنا، اپنے آپ کو چھپانا، نظر سے اوجھل ہو جانا، گم ہونا، غائب ہونا، ناپید ہونا۔ خَبْء و خِبْء: چھپایا ہوا، چھپی ہوئی چیز۔ خَبِیئَة جمع خَبَایَا: جسے چھپایا گیا ہو، پوشیدہ، مخفی چیز، سامان رکھنے کی خفیہ جگہ۔ خبایا الارض: زمین میں چھپی ہوئی چیزیں، قدرتی وسائل۔ مَخْبَأ جمع مَخَابِئ: چھپانے کی جگہ، لوگوں کے چھپنے کی جگہ۔ جائے پناہ، (مجرموں کا) اڈہ، (بھوتوں کا) بسیرا، گوشہ تنہائی، خلوت، ہوائی حملے سے محفوظ جگہ، تہ خانہ۔ خِباء جمع اَخْبِنَة و اَخْبِیَة: خیمہ، بھوسی، چھال، چھلکا۔ خابِئة و خابِیَة جمع خَوَابِیء و خَوَاب: بڑا برتن، لکڑی کا پیپا، مرتبان۔ مُخْبَآت: مخفی یا پوشیدہ چیزیں، راز، بھید۔ مُخْتَبِی: چھپا ہوا، پوشیدہ۔

خبت: خَبَتَ ـِ خَبْتاً ذکرُهُ: کا چرچا مٹ جانا۔ اَخْبَتَ القومُ: لوگوں کا کا پست اور فراخ زمین میں اترنا۔ ـــ الی اللّٰہ: اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا۔ الخَبْت جمع اَخْبات و خُبُوت: پست اور فراخ زمین۔ الخَبْتَة و الخِبْتَة: تواضع، فراتنی، عاجزی۔ الخَبِیت: منکسر (کہا جاتا ہے: هو خَبِیتُ القلب: وہ منکسر القلب ہے۔ حقیر، برا۔

○ اَخْبَتَ اِلی: (اللہ تعالیٰ) کے سامنے عاجزی کرنا۔

خبث: ۱۔ خَبُثَ ـُ خُبْثاً و خَبَاثَةً و خَبَاثِیَةً: پلید و ناپاک ہونا۔ صفت: خَبِیث جمع خُبُث و خُبَثَاء و اَخْبَاث و خَبَثَة۔ خَبَّثَ الطعامَ: کھانے کو ناگوار بنانا۔ الخَبِیث جمع خُبُث و خُبَثَاء و اَخْبَاث و خَبَثَة مؤنث خَبِیثَة جمع خَبِیثَات و خَبَائِث: ناپسندیدہ، نجس، ہر خراب چیز، ہر حرام چیز۔ الخَبَائِث: وہ چیزیں جنہیں عرب ناپاک و نجس جان کر نہیں کھاتے تھے جیسے سانپ، گبریلا وغیرہ۔ الخَبَث: سونے لوہے وغیرہ کا میل یا کھوٹ۔ بے فائدہ چیز۔ الأَخْبَثَان: بول و براز، پیشاب، پاخانہ۔

۲۔ خَبُثَت نفسُهُ: کا جی متلانا۔

۳۔ خَبُثَ ـُ خُبْثاً: ردی ہونا، مکار ہونا، برے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ خَبَّثَهُ: کو خبیث بنانا۔ اَخْبَثَ: برے لوگوں کی صحبت میں رہنا۔ ـــ هُ: کو برائی سکھانا، خراب کرنا، برائی کی طرف منسوب کرنا۔ تَخَبَّثَ: بتکلف شرارت کرنا۔ تَخَابَثَ: برائی اور شرارت کو ظاہر کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اِسْتَخْبَثَ: شرارت کرنا، خباثت کرنا۔ ـــ هُ: کو خبیث پانا۔ خُبَث: خبیث سے معدول ہے اور مرد کو گالی دینے کے لئے حرف ندا کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں: یا خُبَثُ: اے بدکار مرد۔ الخَبِیث جمع خُبُث و خُبَثَاء و اَخْبَاث و خَبَثَة مؤنث خَبِیثَة جمع خَبِیثَات و خَبَائِث: ردی، بہت مکار۔ خَبَاثِ: خبیثة سے معدول ہے اور عورت کو گالی دینے کے لئے نداء میں مستعمل ہے۔ آپ کہتے ہیں: یا خَبَاثِ (کسر پر مبنی): اے بدکار عورت۔ المَخْبَثَة: سبب فساد (کہا جاتا ہے۔ الکفر مخبثة لنفس المُنعِم: ناشکری محسن کے دل کو خراب و فاسد کرنے کا سبب بنتی ہے۔) مضر چیز۔ الخَبَائِث: برے کام۔ الخِبِّیثَی: برائی پلیدی۔

○ خَبُثَ ـُ خُبْثاً و خَبَاثَةً: برا ہونا، پاپی ہونا بدکار ہونا، شریر ہونا، فاسد ہونا، حرام زادہ ہونا مضر ہونا، نقصان رسان ہونا، کینہ ور ہونا، بدباطن ہونا بدخواہ ہونا، بد اندیش ہونا، متعدی ہونا، عیبی ہونا، بدطینت ہونا۔ تَخَابَثَ: خباثت، شرارت سے پیش آنا، کینہ ظاہر کرنا، پریشان محسوس کرنا۔ خُبْث: برائی، بدکاری، بداعمالی، فسق و فجور (بیماری کی) نقصان رسانی، عناد، بغض، کینہ، بدباطنی، بدخواہی، کینہ جوئی، بدطینی، بدخصالی، خَبَث: فضلہ، ردی یا فضول چیز، کف، جھاگ، پھین، میل، تلچھٹ، گاد، ردی یا نکمی چیز، زنگ، کھوٹ، کوڑا کرکٹ، دھات کا میل، کھنگر۔ خَبِیث جمع خُبُث و خُبَثَاء و اَخْبَاث و خَبَثَة: برا، مضر، خراب، پاپی، بدکار، شرارتی، فاسد، حرام زادہ، نقصان رساں، کینہ ور، بدباطن، حاسد بدخواہ، بدکار، شریر، بدطینت، عیبی، کینہ پرور، موذی، زیاں کار، زہریلا، مخرب اخلاق، متعدی، دل شکن، توہین آمیز، ناپسندیدہ، نازیبا، مکروہ بدبودار، گھناؤنا، تنفر آفرین، نفرت انگیز، متلی پیدا کرنے والا، برگشتہ کرنے والا۔ اَخْبَث: بدتر، زیادہ برا، زیادہ بدکار۔ خَبَاثَة: برائی، بدکاری، شرارت، کینہ، بغض، عناد، بداندیشی، بدخواہی، خباثت شدت، بدخواہی، دشمنی، بدطینی، بدخصالی۔

خبج: خَبَجَ ـُ خَبْجاً بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ـــ الرجلُ: گوز کرنا، پادنا۔ الخَبَج و الخُبَاج: گوز، پاد۔ الخَبِج و الخباجاء: احمق، بے وقوف۔

خبر: خَبَرَ ـُ خُبْراً و خِبْرَةً الشیءَ: کو تجربے سے جان لینا، آزمانا۔ تَخَابَرا: ایک دوسرے کو خبر دینا۔ اِخْتَبَرَ الشیءَ: کا تجربہ کرنا، کو آزمانا۔ الخُبْر: تجربہ، آزمائش، کہا جاتا ہے۔ صَدَّقَ الخبرَ الخُبْرُ: تجربہ اور مشاہدہ نے سنی ہوئی خبر کی تصدیق کی۔ المُخْتَبَر: تجربہ گاہ، کیمیاوی تجربہ گاہ۔ الخَبِیر جمع خُبَراء (فی اصطلاح المحاکم) عدالتی اصطلاح میں: تحقیقات کرنے والا۔ المَخْبَر و المَخْبَرة و المَخْبُرَة: تجربہ اور آزمائش کے ذریعے سے حاصل ہونے والی واقفیت و آگاہی۔

۲۔ خَبُرَ ـُ و خَبَرَ ـَ خُبْراً و خِبْراً و خُبْرَةً و خِبْرَةً و مَخْبُرَةً و مَخْبَرَةً الشیءَ و به: کی حقیقت و ماہیت سے واقف ہونا، باخبر ہونا۔ خَبَّرَ و اَخْبَرَهُ الشیءَ و بالشیءِ: کو کی اطلاع دینا، خبر دینا، کو سے آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَخْبَرَهُ خُبُورَةً: اس نے کسی کو اپنے پاس موجود چیز کی اطلاع و خبر دی۔ خَابَرَهُ: سے باہم گفتگو کرنا اور بحث کرنا۔ تَخَبَّرَ الامرَ: سے اچھی طرح واقف ہونا۔ ـــ هُ: سے خبر دریافت کرنا۔ تخابرا: باہم گفتگو کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ اِخْتَبَرَ الشیءَ: کی حقیقت جان لینا۔ اِسْتَخْبَرَهُ: سے اچھی طرح واقف ہونا۔ الخُبْر (مص): کسی چیز کا علم۔ الخِبْر و الخُبْر من الرجال: خبر کا جاننے والا۔ الخَبَر جمع اَخْبار و اَخَابِیر: خبر الاَخْبَارِیّ: مورخ، تاریخ نویس، خبر نویس۔ الخَبِیر جمع خُبَرَاء: دانا، واقف، آگاہ۔ المَخْبَر و المَخْبُرَة: کسی خبر یا تجربے سے حاصل ہونے والی واقفیت و آگاہی، سنی ہوئی بات۔

۳۔ خَبَرَ ـُ خَبْراً الارضَ: کھیتی کے لئے زمین جوتنا۔ خَابَرَهُ: بٹائی پر کاشت کرنا۔ الخَبْر واحد خَبْرَة جمع خُبُور: کھیتی۔ الخَبِیر جمع خُبَراء:

کسان، کھیتی۔

۴۔خَبَرَ ـُ خَبْراً الطعامَ: کھانے کو مرغن کرنا۔اِخْتَبَرَ لِاَھلہ: اپنے گھر والوں کے لئے کھانا لینا۔الخُبْرَۃَ: سالن روٹی کے ساتھ کھائی جانے والی چیز۔ زیادہ ثرید۔ اہل وعیال کے لئے خریدی ہوئی خوراک۔ (کہا جاتا ہے: احتمعوا علی خُبْرَتہ: وہ اس کے کھانے پر جمع ہوئے۔) (ح): وہ بکری جس کو لوگ مختلف قیمتوں پر خرید کر آپس میں بانٹ لیں۔

۵۔خَابَرَہُ: کی پروا کرنا۔

۶۔الخَبْرُ واحد خَبْرَۃ جمع خُبُور: بڑا توشہ دان (ح) بہت دودھ دینے والی اونٹنی، پہاڑ میں پانی جمع ہونے کی جگہ (ن) بیری اور اراک کا درخت اور اس کے آس پاس کی گھاس۔الخِبْر: بڑا توشہ دان۔(ح) بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔الخَبِیر: اونٹ کے بال، گرے ہوئے بال، واحد خَبِیْرَۃ جمع خَبَائِر۔ الخَبْرَاء جمع خَبَارَی و خَبَار و خَبْرَاوات: بڑا توشہ دان، بیری کے درخت اگانے والی زمین۔ الخَبَار: نرم زمین، - واحد خَبَارَۃ: جراثیم۔ الخَابُور (ن): ایک قسم کا درخت۔راس العین اور فرات کے درمیان ایک ندی کا نام۔

○ خَبَرَ ـُ خُبْراً و خِبْرَۃً ہ: کو آزمانا، جانچنا، کا امتحان کرنا (کسی مرکب کے) اجزا دریافت کرنا، کا تجربہ کرنا، کی آزمائش کرنا، کا تجربہ رکھنا، کو تجربہ سے جاننا۔ -ہ/ہ: کو اچھی طرح جاننا۔خَبُرَ ـُ ہ/ب: سے پوری طرح واقف ہونا خَبَّرَ ہ ب: کو کے بارے میں بتانا، مطلع کرنا، کو کی اطلاع دینا کو کی تجارتی اطلاعات دینا۔خَابَرَہُ: کو لکھنا، سے مخاطب ہونا، مدد کے لئے کے پاس جانا، سے اپیل کرنا سے تحریری رابطہ کرنا، سے گفت وشنید کرنا، سے شرائط کی بات چیت کرنا۔اَخْبَرَ ہ ب: کو کی اطلاع دینا، کے متعلق بتانا، کو کی خبر دینا، کو کی رپورٹ دینا، سے کچھ بیان کرنا، کو کچھ بتانا۔ تَخَبَّرہ: سے پوچھنا۔تَخَابَرَ: ایک دوسرے کو اطلاع دینا، ایک دوسرے کو مطلع رکھنا، ایک دوسرے سے خط وکتابت کرنا۔—مع فی: سے کے بارے میں گفت وشنید کرنا، بات چیت کرنا۔اِخْتَبَرَ ہ: کا گہرا مطالعہ کرنا، کا کھوج لگانا، کی تحقیق کرنا، کی چھان بین کرنا، کا سراغ لگانا کے بارے میں معلومات تلاش کرنا۔ ہ/ہ: کو آزمانا، کا امتحان لینا، کو جانچنا، کی آزمائش کرنا، کا تجربہ کرنا۔ہ: کو تجربہ سے جاننا، کو اچھی طرح جاننا۔اِسْتَخْبَرہ عن: سے کے بارے میں دریافت کرنا، سے کے بارے میں پوچھنا۔خَبَر

جمع اَخبار: خبر، اطلاع، رپورٹ، پیغام، مکتوب، مراسلہ، خبر رسانی، اعلان، افواہ، کہانی، معاملہ، مُسْنَد، خبر (گرامر)، جمع: وقائع، تاریخ سالہ عن اخبارہ: سے کسی دوسرے شخص کے بارے میں پوچھنا۔دَخَلَ فی خبر کان یا کانَ فی خبرِ کانَ: ماضی سے متعلق ہو جانا ڈھلی ہوئی جوانی والا ہونا، پرانے نمونہ کا ہونا، موجود نہ رہنا۔ خَبْرَۃ و خُبْر: تجربہ، واقفیت، علم، خَبِیر ب: کا تجربہ کار، سے واقف، اچھی طرح آگاہ، کا عالم۔الخَبِیر: اصل جاننے والا (اللہ تعالیٰ کی ایک صفت) جمع خُبَرَاء: ماہر، سپیشلسٹ۔خَبِیرُ الضرائب: ٹیکس کا ماہر، مشیر ٹیکس۔خَابُور جمع خَوَابِیر: کھونٹی، پن، کیل، میخ، کھونٹا، چوب، پچانہ، پچر، لوہے یا لکڑی کا پتلا ٹکڑا۔مَخْبَر: سمجھ، فہم، ذاتی، اصلی یا حقیقی مفہوم جمع مَخَابِر: لیبارٹری۔مِخْبَار جمع مَخَابِیر: ٹیسٹ ٹیوب (test tube) مُخَابَرَۃ جمع مُخَابَرات: مراسلت خط وکتابت (تحریری) اطلاع (ترتیب وار اشتہارات میں) (المُخَابَرَۃ ب: براہ مہربانی کو لکھیں، سے رابطہ کریں) نوٹس، اعلان، اشتہار، خبر، اطلاع، مراسلہ، رابطہ۔مُخَابَرۃ تلیفونیہ: ٹیلی فون کال، ٹیلی فون پر گفتگو، بات چیت۔مُخَابَرَۃ خارَجیَۃ: دور جگہ سے آنے والے ٹیلی فون پر بات چیت یا ٹیلی فون پر بلاوا۔ Long distance call مُخَابَرۃ سِرِّیَۃ: خفیہ سرکاری اعلان۔قَلَمُ المُخَابرات: دفتر یا محکمہ خفیہ اطلاعات Intelligence bureau۔المُخَابَرۃ حُضُورِیًّا (ترتیب وار اشتہار میں): ذاتی طور پر درخواست دیں۔اِخبار: اعلان، اطلاع، مراسلت، نوٹ۔ پیغام، رپورٹ، بالواسطہ مباحثہ، بیان یا گفتگو اِخْبَارِی: خبروں کا، معلومات کا یا کے متعلق۔تَخَابُر: گفت وشنید، مراسلت، خط وکتابت اِخْتِبَار جمع اختبارات: مطالعہ، گہرا مطالعہ، امتحان، جانچ پڑتال، آزمائش، جائزہ، امتحان کی ایک شق، تجربہ، (سائنسی) تحقیق، ریسرچ، عملی تجربہ، عملی واقفیت، عملی تجربہ۔ اختبارات تَحْرِیرِیَۃ: تحریری امتحان کی شقیں۔ اختبار ذاتی: ذاتی تجربہ۔ علی سبیلِ الاختبار: تجرباتی، طور پر۔تحتَ الاختبار: آزمائشی، تجربے کے لئے، بطور آزمائش۔حُقُول الاختبار: تجرباتی میدان، تجربات کے میدان۔اِختباری: تجرباتی، مشاہدتی۔ اِختبارِیۃ: تجربہ کاری، تجربیت۔اِسْتِخْبَار جمع اِسْتِخْبَارات: چھان بین، تحقیقات، تفتیش۔ دائرۃ الاستخبارات: دفتر یا محکمہ اطلاعات۔مُخْبِر

جمع مُخْبِرون: رپورٹر، سراغرساں خفیہ تفتیش کرنے والا۔ مجرموں کو پکڑنے والا، خفیہ پولیس کا ملازم۔مُخْتَبَر جمع مُخْتَبَرات: لیبارٹری۔

خبز: ۱۔خَبَزَ ـِ خَبْزًا الخُبْزَ: روٹی پکانا۔القومَ: کو روٹی کھلانا۔کہا جاتا ہے: خَبَزتُھم و تمرتُھُمْ: میں نے انہیں روٹی اور کھجور کھلائی۔اِخْتَبَزَ الخُبزَ: روٹی پکانا۔الخُبز واحد خُبْزَۃ: روٹی۔ خُبْزُ الغراب (ن): ایک قسم کی بوٹی جس میں گول گول ٹکیں روٹی کے مانند نکلتی ہیں۔الخَابِز: روٹی والا۔ الخَبِیز: پکا ہوا، ثرید۔الخَبَّاز: نانبائی۔الخِبَازَۃ: نانبائی کا پیشہ۔

۲۔ خَبَزَ ـِ خَبْزًا و تَخَبَّزَہُ: کو مارنا۔

۳۔ اِنْخَبَزَ المکانُ: جگہ کا پست ہونا۔الخَبْز: پست جگہ نشیبی زمین۔

۴۔الخَبَّازَی و الخُبَّاز و الخُبَّیْزَۃ والخُبَّازۃ (ن): خطمی، خبازی (ایک جنگلی پودا)۔

○ خَبَّاز جمع خَبَّازُون و خبازۃ: بھٹیارہ نانبائی، بیکری والا مَخْبَز و مَخْبَزَۃ جمع مَخَابِز: بیکری، تنور۔

خبس: ۱۔خَبَسَ ـُ خَبْسًا و اِخْتَبَسَ و تَخَبَّسَ الشیءَ: کو لے لینا، حاصل کرنا، قابو میں کرنا، مال غنیمت کے طور پر لینا۔الخابِس و الخَبُوس والخَبَّس و المُخْتَبِس: شیر الخبلسۃ و الخُبلساء: غنیمت۔

۲۔خَبَسَ ـُ خَبْسًا فُلانًا حقَّہُ: پر ظلم کرنا، اس کا حق چھین لینا۔اِخْتُبِسَ مالُہُ: کا مال جاتا رہنا۔الخَبُوس: ظلم کرنے والا۔الخُبَاسَۃ: ظلم۔

خَبَش: خَبَشَ ـُ خَبْشًا و تَخَبَّشَ الاشیاء من ھا ھُنَا و ھاھُنا: ادھر ادھر سے چیزیں لے کر جمع کرنا۔ الخَبَّاشُ: کمانے والا، حاصل کرنے والا، قابض، مالک۔خُبَاشَاتُ العیش: زندگی کی ضروریات جیسے کھانا وغیرہ۔الناس: مختلف قبائل کی جماعت۔

خبص: خَبَصَ ـِ خَبْصًا الشیءَ بالشیءِ: ایک چیز کو دوسری سے ملانا۔خَبَّصَ و تَخَبَّصَ و اِخْتَبَصَ: کھجور بالائی اور میدہ کا حلوہ بنانا۔اِخْتَبَصَ الرجلُ: کھجور بالائی اور میدہ کا حلوہ لینا یا کھانا۔الخَبِیص والخَبِیصَۃ (ط) کھجور بالائی اور میدہ سے تیار کیا ہوا حلوہ یا مٹھائی۔المِخْبَصَۃ: کڑاہی میں (خبیص) حلوہ کو الٹ پلٹ کرنے کا چمچہ۔

○ خَبَصَ ـِ خَبْصًا ہ ب: کو سے ملانا، کی سے آمیزش کرنا۔خَبَّصَ ہ: کو ملانا، گڈمڈ کرنا، مخلوط کرنا، خلط ملط

کرنا، کو بگاڑ ڈالنا، کا ستیاناس کرنا۔ خبیص و
خبیصۃ: معجون مرکب، دلیا، بھرتا، کھچڑی، خبیصۃ
جیلی جیسی مٹھائی۔ خبّاص: ابتری پیدا کرنے والا،
کام چوپٹ کرنے والا، کام کا ستیاناس کرنے والا۔
غیر ذمہ دار ہلکے ذہن کا شخص۔

خبط: ۱۔ خبَطَ - خبْطًا ہ: کو زور سے مارنا۔ الشجرۃَ:
درخت کے پتے جھاڑنا۔ تخبّطَ ہ: کو زور سے مارنا۔
اِختبطَ ہٗ: کو زور سے مارنا۔ الخبَط (ز) درخت
کے جھاڑے ہوئے پتے۔ الخبیط: وہ دہی جس میں
تازہ دودھ ڈال کر ایک دوسرے میں ملا دیا گیا ہو۔
المِخبَط و المِخبَطۃ جمع مَخابط و المِخباط
جمع مَخابیط: دھوبی کی موگری، پتے جھاڑنے کا
ڈنڈا۔

۲۔ خبَطَ - خبْطًا الشیءَ: کو سخت روندنا۔ اللیلَ: رات
کو بے راہ چلنا۔ ہٗ بخیر: کو بغیر جان پہچان کے خبر
دینا۔ تخبّطَ الشیءَ: کو روندنا۔ الخابط (فا)
(بقول الحریری) بضوءِ سُرًی خابطِ لیلٍ
الیلِ: بے توجہی سے چلنے والا کہا جاتا ہے۔ انہ
یخبط خبطَ عشواءَ: وہ اندھی اونٹنی کی طرح پاؤں
مارتا ہے یعنی بغیر غور و فکر کے کام کرتا ہے۔ ما ادری
ایُّ خابطِ لیلٍ ہو: میں نہیں جانتا کہ وہ رات کو آنے
والا اجنبی کون ہے۔ الخبیط: وہ حوض جس کو اونٹوں
نے پاؤں مار کر گرا دیا ہو۔ الخبُوط و الخبیط و الأخبط
من الخیل: زمین پر پاؤں مارنے والا گھوڑا۔

۳۔ خبَطَ - خبْطًا الشیطانُ زیداً و تخبّطَ
الشیطانُ زیداً: شیطان کا زید کو نقصان پہنچانا۔
الخبْطۃ جمع خِبط و خُبط: (تخبّطُ
الشیطان سے مشتق ہے) شیطان کا آدمی کو خبطی و
دیوانہ کر دینا۔ الخُباط: پاگل پن۔

۴۔ خبَطَ - خبَطَ - خبْطًا البعیرَ: اونٹ کے چہرے
کی چوڑائی میں لمبا داغ لگانا۔ الخِباط جمع خُبُط:
چہرے کی چوڑائی میں لمبا نشان۔

۵۔ خُبِطَ: کو زکام ہونا۔ صفت مخبوط۔ الخبْطۃ
جمع خِبط و خُبط: زکام۔

۶۔ تخبّطتِ البلادُ: ملک میں فتنہ و فساد اور لوٹ مار
مچنا۔ اِختبطتِ البلاد: ملک میں فتنہ و فساد مچنا۔

۷۔ الخُبطۃ جمع خِبط و خُبط: تالاب یا برتن میں
بچا کھچا پانی۔ مشک میں باقی بچنے والا دودھ، تھوڑی
چیز۔ کہا جاتا ہے: علیہ خُبطۃٌ من الجمال: اس پر
خوبصورتی کی جھلک ہے۔ الخِبطۃ جمع خِبط: کسی
چیز کا کچھ حصہ، ٹکڑا۔ (کہا جاتا ہے: کان ذلک بعدَ
خِبطۃٍ من اللیل: یہ رات کے کچھ حصہ گزرنے کے
بعد ہوا)۔ من الماء: پانی کا گھونٹ۔ الخُباط: گرد و
غبار۔

○ خبَطَ - خبْطًا ہ: کو کسی چیز پر مارنا، سے ٹکرانا، کو
کھٹکھٹانا، کو آہستہ سے مارنا۔ الباب: دروازہ
کھٹکھٹانا، دروازے پر دستک دینا۔ الارضَ: جانور کا
زمین پر پاؤں زور سے مارنا۔ یخبط خبطَ
عشواءَ: وہ بے سوچے سمجھے اندھا دھند کام کرتا ہے۔
تخبّطَ ہ: کو مارنا، ضرب لگانا، گرانا، (کے بازی
میں) پچھاڑ دینا، کسی ضرب سے بے ہوش یا وقتی طور پر
ناکارہ کر دینا۔ - ہ: سے ٹکرانا سے ٹکر ہونا، ٹھوکر کھانا،
-: کھو جانا، گم ہو جانا، بھٹک جانا، راستہ بھول جانا،
ادھر ادھر پھرنا، مارے مارے پھرنا، ٹامک ٹوئے مارنا،
ٹٹولنا جدوجہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، مدافعت کرنا
مقاومت کرنا، (گھوڑے کا) سرپٹ دوڑنا، زمین پر
کھٹ کھٹ کرتے جانا۔ اِختبطَ: (سے)
ٹکرانا، جدوجہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، مدافعت کرنا،
مقاومت کرنا، ٹامک ٹوئیے مارنا، کھو جانا، گم ہو جانا
بھٹکنا، راستہ بھول جانا، ہلنا، حرکت کرنا، کھلبلی پڑنا،
افراتفری پڑنا۔ خبطۃ: ضرب، دستک، کھٹکھٹاہٹ،
شور، غل، شور و غل، غوغا، شور و غوغا، غل غپاڑہ، ہنگامہ،
گڑبڑ۔ خُباط: پاگل پن، دیوانگی، جنون، دماغی خلل۔

خبع: خبَعَ - خبْعًا فی المکان: جگہ میں داخل ہونا۔
- الشیءَ: کو چھپانا۔ خباۃ کے معنی میں آتا ہے۔
اس لئے کہا جاتا ہے۔ جاریۃٌ خُبَعۃٌ طُلَعۃٌ: وہ لڑکی
جو کبھی اپنے آپ کو چھپائے اور کبھی ظاہر کرے۔ - ـَ
خُبوعًا الصبیُّ: بچہ کا روتے ہوئے سانس گھونٹ
لینا۔

خبق: خبَقَ - خبْقًا: گوز کرنا۔ ہٗ: کو اپنے سے حقیر
جاننا۔ تخبّقَ الشیءُ: بلند ہونا۔ الخِبِقّ: بہت
کودنے والا آدمی، تیز رفتار گھوڑا۔

خبل: ۱۔ خبَلَ - خبْلًا و خبّلَ ہٗ: کو خراب کرنا، بگاڑنا۔
- ہٗ الحزنُ اور الدھرُ اولداءُ: غم، زمانے یا
بیماری کا کسی کی عقل یا عضو کو خراب کر دینا۔ - یدَہٗ:
کے ہاتھ کو شل (خشک) کرنا۔ خبِلَ - خبَلًا و خبالاً:
پاگل ہونا صفت خبِل و اخبل۔ - تِ الیدُ: ہاتھ کا
شل ہو جانا، خشک یا بیکار ہو جانا۔ اِختبلَ ہٗ الحزنُ
او الداءُ: غم یا بیماری کا کسی کی عقل کو خراب کر دینا۔
الخبْل و الخبَل جمع خُبول: اعضاء کی خرابی،
فالج، ہاتھ پاؤں کی کاٹ۔ الخبل من الدھر: بگڑا
ہوا زمانہ۔ الخبال: فساد، بگاڑ، مشقت، مصیبت
(کہا جاتا ہے: ھو خبالٌ علی اھلہ: وہ اپنے اہل پر
بوجھ ہے)۔ نقص، ہلاکت، زہر قاتل۔ الخابل:
فسادی مفسد، شیطان، جن کہا جاتا ہے۔ مَسّہٗ الخابلُ:
اس کو جن نے پاگل کر دیا۔ الخابلان: رات، دن۔
مُخبَّل (ال کے بغیر زمانہ کا ایک نام۔ المُخبَّل:
مجنوں، پاگل، تھڑدلا۔

۲۔ خبَلَ - خبْلًا ہٗ: کو گرویدہ کرنا۔ خبَلَ الحبُّ قلبَہٗ:
محبت نے اسے گرویدہ کر دیا۔ الخَبَل: دلفریبی،
مسحوری، گرویدگی۔

۳۔ خبَلَ - خبْلًا و خبّلَ ہٗ عن کذا: کو سے روکنا، منع
کرنا کہا جاتا ہے۔ خبَلَ عن فعل ابیہ: اس نے
اپنے باپ کے فعل سے کوتاہی کی۔ المُخبَّل: درد کے
باعث اچھی طرح نہ چل سکنے والا۔

۴۔ اِستخبلَ ہٗ الابلَ: سے اونٹ عاریۃً لینا تا کہ ان
سے فائدہ اٹھائے۔ الخَبَل: قرض، عاریۃً لینا۔

۵۔ الخَبَل (ح): ایک پرندہ جس کی آواز الو جیسی ہوتی
ہے۔ بعض بڑے امراء کا لقب۔

○ خبَلَ - خبْلًا ہ: کو گڈمڈ کرنا، درہم کرنا، خلط ملط
کرنا، چوپٹ کرنا، کا ستیاناس کرنا، کو پیچیدہ کرنا،
الجھانا۔ - ہ: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کے لئے
معذوری کا باعث ہونا، کو روکے رکھنا۔ کے حواس مختل
کر دینا، کو گھبرا دینا، چکرا دینا، کے دماغ کو پریشان کر
دینا، کے ہوش اڑا دینا، کو پاگل بنا دینا۔ خبِلَ -
خبَلًا و خبالاً: بوکھلا جانا، دماغی طور پر پریشان ہو
جانا، سودائی ہو جانا، پاگل ہو جانا، دیوانہ ہو جانا۔ خبَّلَ
ہ/ہ: کو گڈمڈ کر دینا، درہم برہم کر دینا، خلط ملط کر
دینا۔ - ہ: کو پیچیدہ کرنا، الجھانا، چوپٹ کرنا، کا
ستیاناس کرنا بے ترتیب کر دینا۔ - ہ: کے حوش اڑا
دینا، کو پاگل کر دینا۔ اِختبلَ: (دماغ کا) گڈمڈ ہو
جانا، گھبرا جانا۔ خبْل: بوکھلاہٹ، گڑبڑ، ابتری،
پریشانی، دماغی خرابی، پاگل پن۔ خبِل: پاگل،
سودائی، کمزور دماغ والا، بیوقوف۔ اخبل: پاگل،
سودائی، کمزور دماغ والا، بیوقوف۔ اختبال: دماغی
خرابی۔ مخبول: پاگل، سودائی، کندذہن، غبی،
بیوقوف، احمق، گدھا، دیوانہ، پریشان۔ مُخبَّل:
پریشان، بوکھلایا ہوا، چکرایا ہوا، حیران پریشان،
حیران، دہشت زدہ، گڈمڈ، الجھا ہوا، غیر واضح، غیر
مربوط۔

خبن: ۱۔ خبَنَ - خبْنًا و خِبانًا الثوبَ: کپڑے کو موڑ کر
سینا۔ - و اختبنَ الطعامَ: کھانے کو کپڑے کی تہہ میں
چھپانا۔ اِختبنَ الشیءَ: کو کپڑے کی تہہ میں پکڑنا،

لینا۔ الخُبْنَةُ جمع خُبَن: کپڑے کی تہہ، تہہ کردہ دامن۔ خوراک جو کپڑوں کی تہہ میں لی جائے۔ رجل خُبُنٌّ: سمٹے ہوئے اعضاء والا آدمی۔

۲۔ خَبَنَ ـِ خَبْنًا و خِبانًا الشاعرُ: شاعر کا اپنے شعروں میں خبن استعمال کرنا۔ الخَبْن فی الشِّعر: دوسرے ساکن جزء کا حذف۔ جیسے فاعلن میں الف حذف کر کے اسے فَعِلُن کر دینا۔

خبا: خَبَا ـُ خَبْوًا و خُبُوًّات النارُ او الحِدّةُ: آگ یا حرارت کا ٹھنڈا ہونا، مندا پڑنا، بجھنا۔ کہا جاتا ہے: خبا لهبُهُ: اس کے غصہ کا جوش ٹھنڈا ہو گیا، فرو ہوا۔ اَخْبَا النارَ: آگ کو بجھانا۔

○ خَبَا ـُ خَبْوًا و خُبُوًّا: آگ کا بجھنا، بجھ جانا۔

خبی: خَبَی الشیءَ: بمعنی خَبَأَہ (کو چھپانا)۔ خَبَّی و اَخْبَی و تَخَبَّی الخِباءَ: خیمہ نصب کرنا، اِسْتَخْبَی الخِباءَ: خیمہ نصب کرنا، خیمہ میں داخل ہونا۔ الخِباء جمع اَخْبِیَة: اون یا اونٹ کے بالوں کا خیمہ، بالی میں جو یا گیہوں کے دانے کا چھلکا، شگوفے کا غلاف۔

○ خِبْیارِی: سرجن یا دوسری بڑی مچھلی کے انڈے جو خاص طور پر تیار کر کے، کھانے کے شروع میں کھائے جاتے ہیں۔

خت: خَتَّ ـُ خَتًّا السِنانَ الیه: کو پے در پے نیزے مارنا۔ اَخَتَّ الرجلُ: باپ کے ذکر پر شرمندہ ہونا، شرم کرنا۔ ـہٗ: کا حصہ کم کرنا۔ الخَتَت: بدن کی سستی۔ الخَتِیت: خسیس، ناقص۔

ختا: خَتَأَ ـَ خَتْأً عن کذا: کو سے روکنا، منع کرنا۔ اِخْتَتَأَ: کا خوف وغیرہ سے رنگ متغیر ہونا۔ ـمن فلان: سے شرم، ڈر یا ذلت کے سبب چھپنا۔ ـہٗ: کو دھوکا دینا۔ ـالشیءَ: کو اچک لینا۔ مَفازَةٌ مُخْتَتِئَةٌ: بیابان جس میں راستہ نہ ملتا ہو۔

ختر: ا۔ خَتَرَ ـِ خَتْرًا ہٗ: سے بری طرح بیوفائی کرنا۔ صفت: خاتِر و خَتَّار و خَتِیر و خَتُور و خِتِّیر۔

۲۔ خَتَرَ ـُ خَتْرًا و خُتُورًا ت نفسُهُ: کا جی متلانا، بگڑنا۔ خَتِرَ ـَ خَتَرًا: زہر یا دوا پینے سے سن اور بے حس ہو جانا۔ خَتَرَهُ الشرابُ: شراب کا کسی کے نفس کو خراب کر دینا اور ڈھیلا کر کے چھوڑنا۔ تَخَتَّرَ: سست ہونا، ڈھیلا ہونا بیماری وغیرہ کی وجہ سے کسی کے بدن کا سست ہونا۔

۳۔ خَتْرَبَ ہٗ: کو کاٹ ڈالنا، پارہ پارہ کر دینا۔

۴۔ خَتْرَمَ خَتْرَمَةً: گھبراہٹ یا بات نہ کر سکنے کی وجہ سے خاموش رہنا۔

○ خَتَرَ ـِ خَتْرًا ہٗ: کو دغا دینا، سے غداری کرنا، سے بیوفائی کرنا، کو دھوکا دینا۔ خَتْر: بیوفائی، اعتماد کی خلاف ورزی، غداری، دغا، افشائے راز، دھوکا، فریب۔ خَتَّار: بے وفا، نمک حرام، دغاباز، عیار، دھوکے باز، فریبی۔ خاتِر: بیوفا، غدار، دغاباز، نمک حرام۔

ختع: خَتَعَ ـَ خَتْعًا و خُتُوعًا الدلیلُ بالقوم: راہبر کا لوگوں کی اندھیرے میں رہبری کرنا۔ ـعلی القوم: لوگوں کے پاس اچانک آ جانا۔ ـواِنْخَتَعَ فی الارض: زمین میں دور تک نکل جانا۔ الخَتِع والخُتَع: ماہر رہنما۔ الخَوْتَع: ماہر رہنما۔ (ح) خرگوش کا بچہ۔ الخِتاع: چمڑے کا دستانہ جو باز پالنے والے باز کے پنجوں کی خراش کے خوف سے پہنتے ہیں۔

ختل: ا۔ خَتَلَ ـِ خَتْلًا و خَتَلانًا و خاتَلَ مُخاتَلَةً ہٗ: کو دھوکا دینا۔ کہا جاتا ہے: خاتَلَ الصیادُ: شکاری کا دبے پاؤں چلنا کہ شکار کو آہٹ محسوس نہ ہو۔ صفت: خاتِل و خَتُول۔ تخاتلوا: ایک دوسرے کو فریب دینا۔ اِخْتَتَلَ الرجلَ: کو دھوکا دینا۔ الخَتّال مونث خَتّالَة: بڑا دھوکے باز، فریبی۔

۲۔ اِخْتَتَلَ لأسرارِ القوم: لوگوں کی راز کی باتوں کو چوری سے سننا۔ الخِتْل: چھپنے کی جگہ، خرگوش کا بل۔

۳۔ الخَوْتَل: ظریف، دانا آدمی۔

○ خَتَلَ ـِ خَتْلًا و خَتَلانًا ہٗ: کو دھوکا دینا، فریب دینا۔ کے ساتھ دورخی سے کام لینا۔ کو جل دینا۔ خاتَلَ ہٗ: بمعنی خَتَلَه۔ ـمنافقت سے پیش آنا، منافقانہ رویہ اختیار کرنا۔ اِخْتَتَلَ: بمعنی خَتَلَه۔ خَتْل و مُخاتَلَة: دھوکا، فریب، دغا، دورخی، فریب کاری، جل، ٹھگی۔ مُخاتِل: دھوکے باز، فریبی، مکار، عیار، چالباز، حیلہ ساز، روباہ صفت، جتنی۔

ختم: ا۔ خَتَمَ ـِ خَتْمًا و خِتامًا الشیءَ وعلیه: پر مہر لگانا۔ خَتَّمَ: اچھی طرح ختم کرنا، مہر لگانا۔ ـہٗ: کو انگوٹھی پہنانا۔ تَخَتَّمَ الخاتمَ و بہ: انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہننا۔ کہا جاتا ہے تَخَتَّمَ بالعقیق: اس نے عقیق جڑی انگوٹھی پہنی۔ (عقیق سرخ رنگ کا موتی) الخاتام جمع خَواتِیم: انگوٹھی خواہ اس پر پہننے والا کا نام کندہ ہو یا نہ، مہر۔ الخاتَم: مہر۔ والخاتِم جمع خَواتِم و خُتُم: انگوٹھی، مہر، جس سے ختم کیا جائے۔ الخَتَم: انگوٹھی، مہر۔ الخَتْم: مہر، جس سے ختم کیا جائے۔ الخِتام جمع خُتُم: ہر وہ چیز جس سے کسی چیز پر مہر لگائی جائے۔

۲۔ خَتَمَ ـِ خَتْمًا و خِتامًا العملَ: کام سے فراغت حاصل کرنا۔ ـالکتاب: پوری کتاب پڑھ جانا۔ ـاللّٰهُ له بالخیر: کا اچھا انجام کرنا۔ اَخْتَمَ الکتابَ: کتاب کا خاتمہ تک پہنچنا۔ اِخْتَتَمَ ہٗ: کو پورا کرنا۔ الخاتَم و الخاتِم جمع خَواتِم و خُتُم: ہر چیز کا انجام۔ الخاتِمة جمع خَواتِیم و خاتِمات: الخاتم کا مونث: انجام، نتیجہ، اخیر۔

۳۔ خَتَمَ ـِ خَتْمًا و خِتامًا علی قلبه: کو بے سمجھ بنانا۔ کہا جاتا ہے: خَتَمَ علیك بابَهُ: سے اعراض کرنا۔ ـالاناءَ: برتن کو مٹی وغیرہ سے بند کرنا۔ تَخَتَّمَ بامرہ: اپنے معاملہ کو چھپانا۔ ـعنه: سے غافل بن کر چپ رہنا۔ الخِتام جمع خُتُم: مٹی۔

۴۔ خَتَمَ ـِ خَتْمًا و خِتامًا الزرعَ و علیه: کھیتی کو پہلی بار سیراب کرنا۔

۵۔ تَخَتَّمَ: عمامہ باندھنا۔ کہا جاتا ہے: تَخَتَّمَ بعمامته: اس نے اپنا عمامہ باندھا۔

۶۔ الخَتْم: شہد۔ الخاتَم و الخاتِم جمع خَواتِم و خُتُم: گدی کا گڑھا۔ ٹانگوں کی تھوڑی سفیدی۔ المُخَتَّم من الخیل: وہ گھوڑا جس کی ٹانگوں میں تھوڑی سی سفیدی ہو۔

○ خَتَمَ ـِ خَتْمًا و خِتامًا ہٗ: پر مہر لگانا، کو مہر یا انگوٹھی کی مہر دینا، پر اسٹامپ یا اسٹام لگانا، اسٹامپ سے نقش لگانا، کو بند کرنا، کو غیر اثر پذیر بنانا، ناقابل رسائی یا پہنچ سے باہر بنانا۔ ـعلی القلوب: (اللہ تعالیٰ کا) دلوں کو غیر اثر پذیر بنانا۔ ـہٗ: چھپائی مہر لگانا، کو ختم کرنا، خاتمے پر پہنچانا، مکمل کرنا، (زخم) کو بند کرنا، صحت یاب کرنا، مندمل کرنا۔ تَخَتَّمَ ب: (انگوٹھی) پہننا۔ ـبالذهب: سونے کی انگوٹھی پہننا۔ اِخْتَتَمَ ہٗ: کو ختم کرنا۔ خَتْم: مہر لگانا، جمع اَخْتام و خُتُوم: مہر، انگوٹھی کی مہر، مہر کا ٹھپا، اسٹامپ، ٹکٹ، اسٹامپ کا ٹھپا۔ بمعنی خَتْمَة: قرآن مجید (کی تلاوت) کا ختم۔ ختمُ البرید: ڈاک کی مہر، ڈاکخانے کی مہر، ڈاک خانے کا ٹھپا۔ شمع الختم (مہر لگانے کی) لاکھ۔ خَتْمَة جمع خَتَمات: ختم قرآن (خصوصاً کسی تقریب میں)۔ خاتَم و خاتِم جمع خَواتِم: مہر، انگوٹھی، انگوٹھی کی مہر، سٹامپ۔ خاتم الزواج: شادی کی انگوٹھی۔ خاتَمُ النبیین: آخری نبی (رسول کریم ﷺ) خاتام جمع خَواتِیم: مہر کی انگوٹھی، انگوٹھی۔ خِتام: لاکھ، انجام، خاتمہ، اختتام۔ فی الختام: آخرکار، انجام کار بالآخر۔ خِتامِی: آخری، کلمةٌ خِتامِیّةٌ: آخری تقریر، اختتامی تقریر۔ اِخْتِتام: خاتمہ، انجام، اخیر، آخر، آخری حصہ، اختتام۔ خاتِمة جمع خَواتِم و

خَوَاتِیم: آخر، خاتمہ، انجام، آخری حصہ، اختتام، کتاب کا خاتمہ، خَوَاتِیم: آخری مرحلہ یا منزل۔ مُخَتَّم: انگوٹھی یا انگوٹھیاں پہنا ہو (ہاتھ) مُخْتَتَم: آخر، اخیر، انجام، خاتمہ، آخری حصہ، اختتام۔

ختن: ۱۔ خَتَنَ ـِ خَتْنًا الشیءَ: کو کاٹنا۔ ـ الصبيَّ: بچہ کا ختنہ کرنا۔ بچہ جس کا ختنہ کیا گیا ہو: خَتِین و مَخْتُون۔ اِخْتَتَنَ الصبيُّ: بچہ کا ختنہ شدہ ہونا۔ الخِتان ختنہ۔ الخِتانة: ختنہ، ختنہ کرنے والے کا پیشہ۔

۲۔ خَتَنَ ـُ خُتُونًا و خُتُونَةً و خَاتَنَ ہٗ: کو داماد بنانا۔ الخَتَن جمع اَخْتان: عورت کی طرف سے رشتہ دار جیسے سسر، سالا، داماد۔ الخَتَنَة: الخَتَن کا مؤنث۔ ساس۔

۳۔ خَتَنَ ـُ خَتْنًا الرجلَ: کو دھوکا دینا۔ خَاتَنَ الرجلَ: کو دھوکا دینا۔

۴۔ الخَاتُون جمع خَوَاتِین: شریف زادی، بیگم۔ المَخْتُون من الاَعوام: خشک سال۔

ختا: خَتَا یَخْتُو خَتْوًا: غم یا بیماری سے شکستہ دل ہونا۔ ـ ہٗ: کو کسی بات سے روکنا۔ اِخْتَتَی المتاعَ: کپڑوں کو ایک ایک کر کے فروخت کرنا۔ اِخْتَتَی اِخْتِتَاءً: غم یا بیماری سے شکستہ دل ہونا۔

خثّ: خَثَّثَ الشیءَ: کو جمع کرنا، کی اصلاح کرنا۔ اِخْتَتَّ: شرم کرنا۔ الخُثّ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ یا پانی کے اوپر کی خشک شدہ کائی۔ الخُثَّة و الخَثَّة: آگ سلگانے کے لئے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا گٹھا۔

خثر: ۱۔ خَثَرَ ـُ خَثْرًا و خُثُورًا و خَثَرانًا خَثِرَ ـَ خَثَرًا و خَثُرَ ـُ خَثارَةً و خُثُورَةً و تَخَثَّرَ اللبنُ: دودھ کا گاڑھا ہونا، دہی بنا صفت: خَاثِر۔ اَخْثَرَ الزبدَ: مکھن کو بغیر پگھلائے چھوڑ دینا۔ خَثَّر و اَخْثَرَ اللبنَ: دودھ کو گاڑھا کرنا، دہی بنانا۔ ایک ضرب المثل ہے۔ ما یدری اَیُخْثِرُ اَم یُذِیب: وہ اپنے کام میں متردد ہے، نہیں جانتا کہ کرے یا نہ کرے۔ الخَاثِر من اللبن وغیرہ: گاڑھا دودھ وغیرہ۔ کہا جاتا ہے: اِسْتَیْقَظ فلانٌ خَاثِرَ النفس: فلاں شخص بیدار ہوا تو اس کی طبیعت بوجھل، ست اور بدمزہ تھی۔ الخُثَارَة: بچا ہوا گاڑھا گاڑھا دودھ۔ کہا جاتا ہے: ذھب صفوہٗ و بقیت خُثارتہٗ: اس کا صاف اور خالص حصہ ختم ہو گیا اور تلچھٹ باقی رہ گئی۔

۲۔ خَثَرَ ـِ خَثَرَاتْ نفسُ الرجل: کا جی متلانا، مضطرب ہونا۔

۳۔ الخَاثِرَة: جماعت۔ الخُثَار: دسترخوان پر بچی کھچی چیزیں۔ الخُثارَة: چیز کا بقیہ۔

○ خَثَرَ ـُ و خَثِرَ ـَ: ٹھوس ہو جانا، گاڑھا ہو جانا، ٹھوس بننا، جمنا، موٹا ہونا، گاڑھا ہونا، لیس دار ہونا نیم سیال ہونا، منجمد ہونا، جم جانا، دہی جمنا۔ خَثَّر و اَخْثَرَ ہٗ: (سیال چیز) کو موٹا کرنا، گاڑھا کرنا، (دودھ) کو دہی بنانا۔ تَخَثَّر: بمعنی خَثَر و خَثِر، خَثْرَة: انجماد خون (طب) خُثَار: تلچھٹ، پھین، میل، پھپھونڈی، فضلہ، تیل تنولی، نیچ ذات کے لوگ، بھیڑ، انبوہ۔ خُثارَة: تلچھٹ، گاد، دُرد۔ تَخَثُّر: انجماد، جماؤ۔ تَخَثُّر فی المخ: دماغ میں انجماد خون۔

خَاثِر: گاڑھا، جما ہوا۔ لیس دار، جس پر لیس دار تہہ جم گئی ہو، دہی بنا ہوا، منجمد، سخت، ڈلا بنا ہوا، تودا بنا ہوا، گاڑھا کیا ہوا، دہی۔ مُخَثَّر: موٹا کیا ہوا، گاڑھا کیا ہوا، جمایا ہوا، دہی بنایا ہوا۔ چپچپا، لعاب دار، لیس دار، جس پر لیس دار تہہ جم گئی ہو۔ ڈلا بنا ہوا، تودا بنا ہوا، منجمد۔

خثعم: تَخَثْعَمَ: خون آلود ہونا۔ الخَثْعَمَة: جسم کا خون آلود ہونا یا اکٹھے ہو کر لوگوں کا جانور کو ذبح کرنا اور جل جل کر کھانا پھر اس جانور کے خون میں خوشبو ملا کر ہاتھ رنگنا اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ کرنا۔ الخَثْعَم و المُخَثْعَم (ح): شیر۔

خثل: الخَثْلَة: موٹی عورت۔ و الخَثْلَة من البطن (ع): پیڑو۔ کہا جاتا ہے: طعنہ فی خثلتبطنہ: اس نے اس کے پیڑو میں نیزہ مارا۔

خثم: ۱۔ خَثِمَ ـَ خَثَمًا: چوڑی یا موٹی ناک والا ہونا صفت: خَثِم و اَخْثَم۔ ـ الْاَنْفَ: کی ناک کو کچل دینا۔ خَثَّمَ الشیءَ: کو چوڑا کرنا۔ الخُثْمَة: ناک کی چوڑائی۔ یا موٹائی۔

۲۔ خَثِمَ ـَ خَثَمَاتِ اخلاف الناقة: اونٹنی کے تھنوں کا بند ہونا۔

خجّ: خَجَّ ـُ خَجًّاہٗ: کو ہٹانا، دفع کرنا۔ ـ برجلہٖ: پاؤں سے خاک اڑانا۔ ـ بسلحہٖ: پاخانہ کرنا۔ ـ الحطبَ: لکڑی پھاڑنا، چیرنا۔ ساعدہٗ: کی کلائی کا گٹھا ہوا ہونا۔ اِخْتَجَّ الجملُ: اونٹ کا ترچھا کھاتے ہوئے جلد چلنا۔ الخجوج من الریاح: تیزی سے گزرنے والی یا چلتے ہوئے چکر دار آندھی۔

خجأ: خَجَأَ ـَ خَجْأً الرجلُ: پیچھے ہٹنا، ذلیل ہونا۔ ـ اللیلُ: رات کا اختتام پر پہنچنا۔ ـ ہٗ: کو مارنا، خَجِیءَ ـَ خَجَأً: شرم کرنا۔ اَخْجَأَہٗ: سے سوال میں اصرار کرنا، تَخَاجَأ: دیر لگانا۔ الخُجَأَة: موٹا اور ست، احمق۔

خجف: الخَجْف و الخَجِیف: اوچھاپن۔

خجل: ۱۔ خَجِلَ ـَ خَجَلًا: شرم و حیا سے مضطرب ہونا۔ صفت: خَجِل و خَجْلان۔ ـ بامرہٖ: اپنے معاملہ میں مشتبہ ہونا۔ ـ البعیرُ بالحمل: پر بوجھ کا بھاری ہونا۔ ـ من کذا: سے زچ ہونا۔ ـ فی طلب الرزق: رزق طلبی میں ست ہونا۔ خَجَّلَ و اَخْجَلَ ہٗ: کو شرمندہ کرنا۔ الخجل (مص): حیا، شرم۔

۲۔ خَجِلَ ـَ خَجَلًا الثوبُ: کپڑے کے نیچے کے حصہ کا بہت پھٹا ہوا ہونا اور فراخ ہونا۔ صفت: خَجِل۔ ـ النباتُ: نباتات کا زیادہ اور گنجان ہونا صفت خَجِل۔ اَخْجَلَ النباتُ: نباتات لمبا اور گنجان ہونا۔

○ خَجِلَ ـَ خَجَلًا: گھبرا جانا، پریشان ہونا۔ ـ من: کسی چیز سے خفیف، پریشان یا شرمندہ ہونا، سے شرمسار ہونا، شرمانا۔ شرم محسوس کرنا، شرمندہ ہونا، کے سامنے یا کسی چیز کے بارے میں گھبراہٹ یا پریشانی محسوس کرنا۔ خَجَّلَ و اَخْجَلَ ہٗ: کو شرمندہ کرنا۔ غیرت دلانا، ذلیل کرنا، خفیف کرنا، کو گھبرا دینا، پریشان کرنا، شرمسار کرنا۔ خَجَل من: پر شرم، شرمندگی، ندامت، ذلت، رسوائی، شرمساری۔ شرم، لاج، حیا، شرمیلا پن، لحاظ، جھجک، حجاب اندیشہ، بزدلی، وحشت، بھڑک، خجالت، شرمساری، شرم کی بات، بے غیرتی، بے وقری، بے قدری خفت، ذلت، رسوائی بدنامی، بے آبروئی، فضیحت، شرمناک یا ذلیل حرکت۔ یا لَلْخَجَل: اف یہ رسوائی، ہائے یہ ذلت! یہ تو بڑی شرمناک بات ہے اَخْجَل: شرمندہ، نادم، شرمسار۔ شرمیلا، جھجکنے والا، بے حوصلہ، لجیلا، حیادار، جھینپنے والا، بھڑکنے والا، ڈرپوک، بزدل، خائف، بودا، بے حد شرمیلا، ڈھکنے والی فراوان روئیدگی، نباتات، سبزی، بہت اور بافراط روئیدگی لمبا لٹکتا یا لہراتا (لباس)۔ خَجُول: شرمندہ، نادم، شرمسار، شرمیلا، حیادار، جھینپنے والا، دور رہنے والا، بھڑکنے والا، ڈرپوک، بزدل، خائف، لجیلا بے حد شرمیلا، اپنے اوپر بھروسہ نہ رکھنے والا، بدگمان، خَجْلان: شرمندہ، نادم، شرمسار، شرمیلا، حیادار، جھینپنے والا، دور رہنے والا، بھڑکنے والا، ڈرپوک، بزدل شرم سے حواس باختہ، گھبرایا ہوا، پریشان۔ مَخْجُول: شرمندہ۔ خجل، نادم، منفعل، شرمیلا، جھینپو۔ مُخْجِل: شرم کرنے پر ابھارنے والا، شرمناک، برا مذموم، سخت برا، رسوائی کا موجب، رسواکن، فضیحت ناک۔ الاَعضاءُ المُخْجِلَة: بیرونی آلات تناسل یا اعضائے تناسل، خصوصاً عورت

کے (Pudenda)۔

خجی: خَجِیَ ۔ خَجًیا التراب برجلهٖ: پاؤں سے خاک اڑانا۔ خَجِیَ ۔ خَجًی: شرم کرنا، حیا کرنا۔

خدّ: ۱۔ خَدَّ ۔ خَدًّا فیه الضربُ: میں چوٹ کا نشان چھوڑنا۔ الاَخادید: کوڑے کی مار کے نشانات۔ اسی سے ہے۔ اخادیدُ الحبال: کنوئیں میں رسی کھینچنے کے نشانات۔

۲۔ خَدَّ ۔ خَدًّا الارضَ و فی الارض: زمین پھاڑنا۔ الخَدّ جمع اَخِدَّة و خِداد و خِدّان: لمبا گڑھا، پانی کی نہر طریقہ۔ الخُدَّة جمع خُدَد: لمبا گڑھا۔ الاُخدُود جمع اَخادِید: لمبا گڑھا، خندق۔ المِخَدَّة جمع مَخادّ: زمین پھاڑنے کا آلہ۔

۳۔ خَدَّدَ تَخْدِیدًا لحمَهٗ: کا دبلا ہو کر گوشت کا جھری دار ہونا۔ لحمُهٗ کو دبلا کرنا۔ تَخَدَّدَ لحمُه: کے دبلا ہونے کے سبب گوشت کا جھری دار ہونا۔

۴۔ خادَّ مُخادَّةً ہ: کے کام میں مزاحم ہونا۔ تَخادًّا: ایک دوسرے کی مزاحمت کرنا۔ تَخَدَّدَ القومُ: لوگوں کا فرقوں میں بٹنا۔

۵۔ الخَدّ جمع اَخِدَّة و خِداد و خِدّان: لوگوں کی ایک جماعت۔ جمع خُدُود من الوجه (ع ا): رخسارہ۔ الخَدُود: کواڑ کے دونوں پٹوں کے اطراف میں لکڑی کے تختے۔ المِخَدَّة جمع مَخادّ: سوتے وقت رخسار رکھنے کا تکیہ۔ المِخَدّان: دونوں کچلیاں۔

○ خَدَّ ۔ خَدًّا ہ: زمین میں ہل چلانا، لیک ڈالنا۔ تَخَدَّدَ: لیک پڑنا۔ (کھال پر) جھریاں پڑنا۔ خَدّ جمع خُدُود: رخسارہ، جانب، بغلی یا پہلو کا حصہ۔ صَعَّر خَدَّهٗ: متکبرانہ وضع قطع اختیار کرنا۔ خَدّ و خُدَّة جمع خُدَد: لکیر، ابھری ہوئی لکیر، باہن، پہیوں سے بنی ہوئی نالی، جھری، خانہ۔ اُخدُود: لکیر، ابھری ہوئی لکیر، باہن، پہیوں سے بنی ہوئی نالی، جھری، خانہ، خندق، گڑھا، غار۔ مِخَدَّة جمع مَخادّ: تکیہ، گدہ، گاؤ تکیہ۔

خدب: ۱۔ خَدَبَ ۔ خَدْبًا ہ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ الخَدِبُ من السیوف: کاٹنے والی تلوار۔ طعنةٌ او حربةٌ خَدَبَةٌ و خَدْباء: نیزہ یا برچھی جس کا گھاؤ سخت اور کشادہ ہو۔

۲۔ خَدَبَ ۔ خَدْبًا تهُ الحیّةُ: کو سانپ کا ڈسنا۔

۳۔ خَدَبَ ۔ خَدْبًا: جھوٹ بولنا۔ الخَدّاب: بڑا جھوٹا۔

۴۔ تَخَدَّبَ: لمبا ہونا۔ خَدَب: لمبائی (کہا جاتا ہے: فی لسانه خَدَبٌ: اس کی زبان سے اوچھا پن اور حماقت ٹپکتی ہے۔) اوچھا پن، حماقت، ہلکا پن، بیوقوفی۔ الخدب والاَخْدَب: لمبا بیوقوف، جلد باز۔ الخَدَبَة: لمبائی۔

۵۔ تَخَدَّبَ: درمیانی چال چلنا۔

خدج: خَدَجَ ۔ خِداجًا ت الدابّةُ: جانور کا ادھورا بچہ گرانا۔ صفت: خادِج و مُخْدِج۔ لہٰذا ادھورا بچہ یا وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کو خَدِیج و خَدُوج و مُخْدَج کہتے ہیں۔ خَدُوج کی جمع خُدُوج و خِداج و خَدائِج ہے۔ خَدَّجَت الناقةُ: بمعنی خَدَجَت اَخدَجَت الدابّةُ۔ خَدَجَت ۔ الشیءُ: بمعنی ناقص ہونا۔ ۔صلاتَهٗ: بعض ارکان نماز میں کمی کرنا۔ الخِداج: نقصان، کمی۔

○ خَدِیج: قبل از وقت پیدا ہونے والا بچہ۔ خِداج: اسقاط۔

خدر: ۱۔ خَدِرَ ۔ خَدَرًا العضوُ: عضو کا سن ہو جانا۔ ۔ت العینُ: آنکھ کا بھاری ہونا۔ خَدَّرَ و اَخْدَرَ العضوَ: عضو کو سن کر دینا، بے حس کر دینا۔ الخادِر: سست، کاہل، حیران۔ الخَدَر (طب): عضو کی بے حسی، کاہلی، سستی۔ الخَدِر: بے حس عضو والا۔

۲۔ خَدِرَ ۔ خَدَرًا الحرُّ: گرمی کا تیز ہونا۔ ۔ النهارُ: دن کا تیز گرمی اور حبس والا ہونا۔

۳۔ خَدِرَ ۔ خَدَرًا البردُ: سردی کا تیز ہونا۔ نهارٌ خَدِرٌ: نمناک سرد دن۔

۴۔ خَدَرَ ۔ خَدَرًا: متحیر ہونا۔ الخادِر: متحیر۔

۵۔ خَدَرَ ۔ خُدُورًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ۔الاَسَدُ فی عرینه: شیر کا باند میں رہنا۔ و خَدَّرَ البنتَ: لڑکی کو پردہ میں رکھنا۔ اَخْدَرَ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ۔مع اهلِ: اپنے لوگوں کے ساتھ قیام کرنا۔ ۔الاسدُ: شیر کا جھاڑی میں رہنا۔ ۔البنتَ: لڑکی کو پردہ میں رکھنا۔ ۔الاسدَ عرینُهٗ: جھاڑی کا شیر کو چھپالینا۔ ۔اللیلُ القومَ: رات کا لوگوں کو ڈھانپ لینا۔ تَخَدَّرَ و اِخْتَدَرَ: چھپنا۔ ۔ت البنتُ: لڑکی کا پردہ میں رہنا۔ الخِدْر جمع خُدُور و اَخْدار جج اَخادِیر: ہر ایک چیز جس سے پردہ کیا جائے، شیر کی جھاڑی، لڑکی کے لئے مکان کے ایک گوشہ میں لگایا ہوا پردہ، لڑکی کے رہنے کی خاص علیحدہ جگہ، رات کی تاریکی۔ الخَدَر: تاریکی، تاریک جگہ۔ الخَدِر من اللیالی: اندھیری رات۔ ۔من الامکنة: چھپی ہوئی تاریک جگہ۔ الخَدّار: شیر کی جھاڑی۔ الخُدْرَة: سخت تاریکی۔ الاَخْدَر: تاریک رات۔ ۔ والاَخْدَرِی (ح): ایک قسم کا جنگلی گدھا۔ الخادِرَة (ح): تتلی (پتنگے کا) پہلا (کیڑے [illegible] دوسرے مرحلہ میں لی ہوئی شکل) اس حالت میں پتنگا پوری طرح خول میں چھپا ہوتا ہے۔ المَخدُور من الهوادج: پردہ پڑا ہوا ہودہ۔ الخُدارِیّ: تاریک رات، سیاہ بادل۔ ایک قسم کا جنگلی گدھا۔ الخُداریَّة (ح): عقاب۔

۶۔ خَدَرَ ۔ خَدْرًا الظبیُ: ہرن کا گلہ سے پیچھے رہ جانا۔

۷۔ الخَدَرْنَق جمع خَدارِن (ح): نر مکڑی بعض کے نزدیک: نر مکڑی، بڑی مکڑی، مکڑا۔

○ خَدِرَ ۔ خَدَرًا: (ٹانگ بازو وغیرہ کا) سن یا شل ہونا جھنجھنانا۔ خَدَرَ ۔ خَدْرًا ها: لڑکی کو عورتوں کے لئے مخصوص حصہ میں رکھنا، کو علیحدگی میں رکھنا۔ خَدَّرَ ہ/ہ: کو سن یا شل کرنا، بے حس کرنا، اکڑا دینا، بے ہوش کرنا، مدہوش کرنا (دماغ) مختل کرنا، مدہوش کرنا۔ سلا دینا، بیہوش کرنے والی دوا دینا۔ ها: لڑکی کو عورتوں کے لئے مخصوص جگہ میں رکھنا، علیحدہ رکھنا۔ اَخْدَرَ ہ/ہ: کو سن کرنا، شل کرنا، بے حس کرنا اکڑا دینا، بے ہوش کرنا، مدہوش کرنا۔ تَخَدَّرَ: سن ہونا، شل ہونا، بیہوش ہونا، بے حس ہونا، ساکن ہونا، بے حرکت ہونا۔ خِدْر جمع خُدُور و اَخْدار و اَخادِیر: پردہ، عورتوں کے رہنے کی جگہ (خیمہ میں) خواتین کا ذاتی کمرہ، حجلہ۔ خَدَر و خَدْرَة: بے حسی، شل ہونا، (کسی عضو کی جو سو گیا ہو) بے حسی، حیرت، سستی مدہوشی۔ خَدِر: بے حس شل (عضو)، بیہوش بے حرکت، سن، سست، بدحواس۔ تَخْدِیر: دوا دے کر بے حس یا بیہوش کرنا، سن کرنا، غنودگی طاری کرنا، خادِر: ڈھیلا، نرم، سست، بے طاقت، ضعیف، کمزور، ناتواں، کاہل، مضمحل، سن، بے حس، بے حس و حرکت، بدحواس، اپنے مسکن میں چھپا ہوا، تاک لگائے یا تاک میں رہنے والا (شیر) خادِرَة: تتلی یا پتنگے وغیرہ کی پر نکلنے سے پہلے کی حالت۔ مُخَدِّر: وہ چیز جو بیہوش کر دے، درد دور کرنے والی (دوا)، سکون پیدا کرنے والی دوا۔ جمع مُخَدِّرات: بیہوشی پیدا کرنے والی نشہ آور، خواب آور (دوا) بے ہوش کرنے والی دوا، خواب آور یا نشہ والی دوا مُخَدَّر: بے حس، سن، شل، بے حس و حرکت، سست کاہل، بے ہوش، مدہوش، نشہ میں چور، پڑے ہوئے۔ مُخَدَّرَة: بیرونی دنیا سے علیحدگی میں رکھی ہوئی لڑکی۔ پردہ نشین لڑکی۔

خدش: خَدَشَ ۔ خَدْشًا و خَدَّشَ ہ: کو نوچنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، خراش لگانا۔ الخَدْش جمع خُدُوش و خِداش و اَخْداش: خراش۔ المَخْدُوش: بہت خراشیں لگانے والا، مکھی، پسو۔ المُخادِش و المُخَدِّش

(ح): بلی۔المُخَدَّش: انسان کی گردن کی کٹنے کی جگہ۔

○خَدَشَ ـِ خَدْشًا ہ: کونوچنا، کھرچنا، چھیلنا، پہ ناخن مارنا، پنجہ مارنا، کو زخمی کرنا، خراب کرنا، پھاڑنا، ٹکرے ٹکرے کرنا، کے پرخچے اڑانا، کی تکہ بوٹی کرنا، پاش پاش کرنا، کو سخت صدمہ پہنچانا، (تہذیب و شائستگی کے قواعد) کی خلاف ورزی کرنا، کسی شخص کی عزت کو نقصان پہنچانا۔ کی بے حرمتی کرنا (امن) میں خلل ڈالنا۔ ـ سُمْعَتَهُ: کی شہرت کو داغ لگانا برباد کرنا۔ خَدَّشَ: بمعنی خَدَشَ۔ خَدْش جمع خُدُوش و أخْدَاش: خراش، خراش کا نشان، رگڑ۔

خدع: ا۔خَدَعَ ـَ خَدْعًا ـِ خِدعًا و خَدْعًا ہُ: کو دھوکا دینا فریب میں لانا۔خَادَعَ مُخادَعَةً و خِداعًا ہُ: کو دھوکا دینا، فریب میں لانا۔العینَ: آنکھ کی دیکھی ہوئی بات میں شک ڈالنا۔ سورہ نساء میں ہے یخادعون اللّٰه و هو خادِعُهُم: وہ اپنے طور پر اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کرم فرمائی دکھا کر ان سے آخرت کے عذاب کو چھپاتا ہے یعنی ان کے دھوکہ کا بدلہ دیتا ہے۔أخْدَعَ ہُ: کو دغابازی پر اکسانہ، برانگیختہ کرنا۔ تَخَدَّعَ ہ: کو دھوکا دینا، فریب دینا۔ ـ لہ: کو جھوٹ موٹ دھوکا دینا۔تَخَادَعَ: دھوکا کھانے کا بہانہ کرنا۔ ـ القومُ: ایک دوسرے کو دھوکا دینا۔اِنْخَدَعَ: دھوکا کھانا، فریب میں آجانا، دھوکے پر رضامند ہو جانا۔ ـ بہ: سے دھوکا کھانا۔اِخْتَدَعَ ہ: کو دھوکا دینا، فریب میں لانا۔الخَدِيْعَة جمع خَدَائِع و الخُدْعَة والخِدَاع: دھوکے کا ذریعہ، مکر، حیلہ۔الخُدَعَة: بہت دھوکا کھانے والا، جسے لوگ دھوکا دیتے رہیں۔الحربُ خُدْعَةٌ: جنگ میں مرد دھوکا کھا جاتے ہیں۔الخُدَعَة والخَدَّاع: بہت دھوکا دینے والا۔الأخْدَع جمع أخادِع: اسم تفضیل: زیادہ دھوکے باز۔الخَيْدَع: بہت دھوکا دینے والا، ناقابل اعتبار دوست، سراب، مکار بھیڑیا۔الخَدُوع جمع خُدُع: بہت دھوکا دینے والا، بہت فریبی۔المُخَدَّع: تجربہ کار جو کئی بار دھوکے کھا چکا ہو۔

۲۔خَدَعَ ـَ خَدْعًا و خُدُوْعًا الضبُّ فی جُحْرِہٖ: سوسمار کا اپنے بل کے اندر جانا۔ ـت الشمسُ: سورج کا غائب ہونا۔ ـت الطریقُ: راستہ کا غیر معلوم ہونا۔الثوبَ: کپڑے کو موڑنا، تہہ کرنا۔ ـالامرَ: معاملہ کو چھپانا۔أخْدَعَ الشیءَ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔طریقٌ خادِع و خَدُوع: وہ راستہ جو کبھی نظر آئے اور کبھی اوجھل ہو جائے۔الخَيْدَع: مقصد کے مخالف نامعلوم راستہ۔الخَادِعَة: مکان کی کوٹھڑی۔ بڑے دروازے کی کھڑکی۔ عام لوگ اسے خَوْخَة کہتے ہیں۔المِخْدَع و المُخْدَع و المَخْدَع جمع مَخَادِع: کوٹھری جو بڑے گھر کے اندر ہو۔

۳۔خَدَعَ ـَ خَدْعًا و خَدْعًا الشَیءُ: چیز کا خراب ہو جانا۔الخادِع من الدنانیر: کم وزن دینار۔

۴۔خَدَعَ ـَ خَدْعًا و خَدْعًا الرجلُ: عطیہ دینے سے رکنا، کی دولت کا کم ہونا۔المطرُ: بارش کا کم ہونا۔ الخَدَّاعَة من السنین: کم پیداوار اور کم سرسبزی والا سال۔

۵۔خَدَعَ ـَ خَدْعًا و خَدْعًات السوقُ: بازار کا ٹھنڈا ہونا سرگرم ہونا۔ ـتِ الامورُ: مختلف ہونا۔اِنْخَدَعَ تِ السوقُ: بازار کا ٹھنڈا ہونا۔

۶۔خَدَعَ ـَ خِدعًا و خَدْعًا الرجلَ: کی رگ (اخدع) کو کاٹ دینا۔الأخْدَعان، الأخْدَع کا مثنی جمع أخَادِع ا ع ا): گردن کی ہر دو جانب دو پوشیدہ رگیں۔ کہا جاتا ہے لأُقِيمَنَّ أخْدَعَكَ) میں تیرے تکبر کو مٹا دوں گا۔ نیز کہا جاتا ہے فلانٌ شدیدُ الأخدع: فلاں شخص بڑا سرکش ہے۔

○خَدَعَ ـَ خِدْعًا ہ عن: سے بے ایمانی سے کچھ حاصل کرنا۔ ـ ہ: کو دھوکا دینا، فریب دینا، جل دینا، غلط راہ پر لگانا غلط خیال دلانا، سے غلطی کرانا، کو ٹھگ لینا۔خُدِعَ عن: کے بارے میں غلطی پر ہونا، کا غلط مطلب سمجھ لینا، سے غلط تاثر لینا، کو صاف نہ دیکھ سکنا۔خَادَعَ ہ: کو دھوکا دینا، فریب دینا، جل دینا، سے بے ایمانی کرنا، دغا کرنا، بے ایمانی کرنا، کو دھوکا دینے کی کوشش کرنا، سے دورخی سے کام لینے کی کوشش کرنا۔ ـاِنْخَدَعَ ب: سے غلط راہ پر لگنا، دھوکا کھانا، بہک جانا، ـ: غلطی پر ہونا۔خُدْعَة جمع خُدَع و خدعات: دھوکا، فریب، دغا، پاکھنڈ، ڈھکوسلا، داؤں، فریب خوردگی بے ایمانی، ٹھگی۔خُدَعَة: ٹھگ، دھوکے باز، عیار، فریبی، پتے باز، دغا باز۔ ـسَوَّی أخْدَعَهُ: کسی کا تکبر کچل ڈالنا، کو ذلیل کرنا۔ خَدِيْعَة جمع خَدَائِع: دھوکا، فریب، مکر، دغا، چال، داؤں، غداری، بیوفائی، افشائے راز، جھوٹ۔خَدَّاع: جھوٹا، فریبی، دغا باز، جھوٹا دعویدار، مدعی، پتے باز، ٹھگ، عیار دھوکے باز، عیار، بے ایمان، دھوکے میں ڈالنے والی (شئے حالت یا شکل) پر فریب۔ خَيْدَع: سراب۔ أخَادِيع: دھوکے، فریب، ٹھگیاں، بے ایمانی کے تعلقات یا لین دین چالبازیاں، بدویانتیاں، عیاریاں، اوہام، وہمی صورتیں، توہمات، وسوسے، مغالطے۔مِخْدَع و مُخْدَع و مَخْدَع جمع مَخَادِع: چھوٹا کمرہ، کمرہ خواب گاہ، خلوت کدہ، خِدَاع: دھوکا، فریب، دغابازی، پاکھنڈ، فریب خوردگی، ڈھکوسلا، داؤں، غداری، دھوکا دہی، بے وفائی، دغا، افشائے راز مکاری، دورنگا پن، دورخا پن، ریاکاری، منافقت چالبازی۔خِدَاعی: حیلہ گرانہ، فریبی، مکارانہ، دھوکے اور فریب کا، گمراہ کن، فریب دہ، دھوکے میں ڈالنے والی (چال وغیرہ) پر فریب وہمی، بے اصل، غیر حقیقی، غلط، جھوٹا۔مُخَادِع: پتے باز، دھوکے باز، فریبی، دغے باز، ٹھگ، مکار، پاکھنڈی، بہروپیا، جعلساز، بدمعاش۔

خدف: خَدَفَ ـِ خَدْفًا: تیز چلنا۔ ـت السماءُ بالثلج: آسمان کا برفباری کرنا۔ و اختدف الشیءَ: کو اچک لینا۔الخَدَف: کشتی کا چپوار۔

خدل: خَدِلَ ـَ خَدَلًا و خَدَالَةً و خُدُولَةً تِ الساقُ: پنڈلی کا پر گوشت ہونا۔

○خَدِلَ ـَ خَدَلًا و خَدَالَةً و خُدولَةً: سخت ہونا، اکڑ جانا، بے لوچ ہونا، سن ہو جانا، بے حس ہو جانا ٹھٹھر جانا، سست ہونا، بے طاقت ہونا، بے جان ہونا، ڈھیلا اور نرم ہونا۔

خدم: ا۔خَدَمَ ـُ خِدْمَةً و خَدْمَةً ہُ: کی خدمت کرنا، کے لئے کام کرنا صفت خَادِم جمع خُدَّام و خَدَم مؤنث خادم و خادمة۔ أخْدَمَ ہُ: کو خادم دینا۔ اِخْتَدَمَ: خود اپنی خدمت کرنا۔ کہا جاتا ہے۔لابُدَّلمن لم یکن لہٗ خادمٌ أن یَخْتَدِمَ: جس کے پاس نوکر نہ ہو اس کو خود اپنا کام کرنا ہوگا۔ ـ ہُ: سے خادم مانگنا کو خادم بنانا۔اِسْتَخْدَمَ ہُ: کو خادم بنانا۔ ـ الرجلَ: سے خادم مانگنا۔الخَادِمِيَّة: نوکری، غلامی۔المَخْدُومِيَّة: آقائی۔الخَدَّام: خادم۔الخَدِيم: خادم، غلام۔المَخْدُوم (مفعول): آقا، مالک۔ ـمن الکتب: وہ مقبول کتاب جس کی لوگ شرحیں اور حاشئے لکھیں۔قومٌ مُخَدَّمُون: بہت نوکر چاکر والے لوگ۔الخِدَمَات: واحد خِدمَة: (اقتصادیات کے ماہرین کے نزدیک) غیر متوقع برآمدات، عبور، دوبارہ برآمد سیاحت اور گرمی کا موسم گزارنا ان خدمات میں شمار کئے جاتے ہیں۔

۲۔الخَدَمَة: رات یا دن کی ایک گھڑی یعنی وقت الخَدَمَة جمع خَدَم و خِدَام و خَدَمَات: پازیب، پنڈلی، لوگوں کا حلقہ، کہا جاتا ہے۔فَضَّ اللّٰہُ خَدَمَتَهُم: اللہ تعالیٰ ان کی جماعت میں پھوٹ ڈال دے۔

—والخِدْمَة: مضبوط چمڑے کا پٹہ جو اونٹ کے گٹے پر باندھا جاتا ہے۔ الأَخْدَم مونث خَدْماء: پاؤں پہ سفید داغ رکھنے والا گھوڑا۔ المُخَدَّم والمُخَدَّمَة: تسمہ، پائجامہ کے نیچے کے حصہ پر باندھنے کی ڈوری، پازیب پہننے کی جگہ۔

○ خَدَمَ ـُ خِدْمَةً: خدمت کرنا، نوکری کرنا، باروزگار ہونا، کام کرنا۔ ہ: کی خدمت کرنا۔ —ہ/ہ: کا ملازم ہونا، نوکر ہونا، کی خدمات انجام دینا، خَدَمَ الارضَ: زمین پر کاشت کرنا۔ خَدَمَهُ خِدْماتٍ كثيرةً: اس نے ان کی کئی خدمات بجالائیں، سرانجام دیں۔ خدم رِكابَ فلانٍ: کے حکم کے ماتحت ہونا۔ خدَم مَصالح فلانٍ: کے مفادات کے لئے کام کرنا۔ خدم القُدّس: عشائے ربانی کی رسم منانا، خَدَّمَ ہ: کو ملازم رکھنا، بے اجرت دیکر کام لینا، کو مختانے پر رکھنا، کو بھاڑے پر لینا، کو کام دینا، کے لئے کام مہیا کرنا۔ کو ملازمت دینا۔ استخدم ہ ل: کو کے لئے ملازم رکھنا، کو کے لئے مختانہ پر رکھنا، مزدور رکھنا، کو کے لئے کام دینا، کو کے لئے کام مہیا کرنا۔ —ہ: عوامی خدمات چلانا، —ہ ل: کو کے لئے استعمال کرنا، —ہ ل: کو کے لئے استعمال کرنا، سے کے لئے فائدہ اٹھانا۔ خَدَم: نوکر چاکر، خادمین، خِدْمَة جمع خِدَم وخدمات: خدمت، حضوری، نوکری، ملازمت، عمل، کام، محکمہ پیشہ۔ فی خدمة شیء: کی خدمت میں۔ فی خِدمتِكُم: آپ کی خدمت کے لئے حاضر، آپ کی خدمت پر کمربستہ۔ خِدْمَةً للحقيقة: سچائی کی خاطر، سچائی کے مفاد میں الخدمة العسكريه: فوجی ملازمت۔ الخدمة الاجبارية: لازمی ملازمت، (فوج میں) جبری بھرتی، جبری ملازمت۔ الخدمة السِرِّيَة: سیکرٹ سروس (حکومت کا وہ محکمہ جو حکومت کے فوجی اور سیاسی رازوں کی حفاظت اور دوسری حکومتوں کے رازوں کو معلوم کرتا ہے)۔ خِدْمَةُ القُدّاس: عشاء ربانی کی رسم اور نماز یا دعا۔ خَدّام جمع خَدّامَة: ملازم، نوکر یا خادم، ملازمہ، نوکرانی، خَدامَة: حضوری، خدمت، ملازمت پیشہ، عمدہ کام۔ خَدّامَة جمع خَدّامات: ملازمہ، نوکرانی۔ تَخْدِيم: روزگار کے کارندے کا کام، پیشہ یا فرض۔ مكتبُ التخديم: محکمہ روزگار، محکمہ مزدوران۔ اِستخدام: چلانا، عمل میں لانا، استعمال، استفادہ ملازمت، (ملازم کو) مختانے پر لینا، خدمت، پیشہ، حیثیت، کام۔ خادم جمع خُدّام و خَدَمَة: گھریلو نوکر، مدد، نوکر، نوکرانی ملازم، خادم، حاضر باش، ڈیکن یعنی کھانا لانے والا، چھوٹا پادری (ڈیکن)۔ خادِمَة: نوکرانی، گھریلو نوکرانی، کھانا لانے والی، ملازمہ، خادم۔ خادِمِيَّة: خادم کا درجہ یا حیثیت۔ مَخْدُوم جمع مَخْدُومُون و مَخادِيم: آقا، مالک، ملازم رکھنے والا۔ مَخْدُومَة: مالکن، خاتون خانہ ملازم رکھنے والی۔ مَخْدومية: آقا یا ملازم رکھنے والے کا درجہ، رتبہ، حیثیت۔ مُخَدَّم جمع مُخَدَّمُون: ملازمت کا کارندہ۔ مُسْتَخْدِم: ملازم رکھنے والا۔ مُسْتَخْدَم جمع مُسْتَخْدَمُون: ملازم، اہلکار۔

خدن: خادَنَ مُخادَنَةً ہ: سے دوستی کرنا، کا ساتھی نبنا یا ہونا۔ الخِدْن جمع اَخْدان: محبوب، ساتھی (مذکر و مؤنث)۔ الخَدِين بمعنی الخِدْن، الخَدَنَة: یار باش آدمی۔

○ خادَنَ ہ: سے دوستی کرنا، کا ہم صحبت ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ خِدْن جمع اَخْدان: جگری دوست، ساتھی، ہم راز، راز دار، محرم۔

خدی: ۱۔ خَدَى ـِ خَدْيًا و خَدَيانًا الفرسُ او البعيرُ: گھوڑے یا اونٹ کا تیز دوڑنا۔ اَخْدَى اِخْداءً: تھوڑا تھوڑا چلنا۔ الخَدَا واحد خَدَاة (ح): جانور کے گوبر سے نکلنے والا کیڑا۔

۲۔ الخُدَيْوِيّ: عزیز مصر کا لقب۔ یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی بادشاہ، وزیر اور سردار ہے۔

○ خِدِيو و خُدَيْوِي: عزیز مصر کا لقب۔ خِدِيُوِي: خدیو کا یا کے متعلق۔

خذّ: خَذَّ ـُ خَذِيذًا و اَخَذَّ الجرحُ: زخم کا پیپ بہنا۔

خذا: خَذَأَ وخَذِئَ ـَ خَذْأً وخُذُوءًا وخَذاءً و اِسْتَخْذَأَ لَهُ: کے آگے فروتنی کرنا، کا وطیع و فرمانبردار ہونا۔ أَخْذَأَهُ: کو ذلیل کرنا، تابع کرنا۔ الخَذاء: نفس کی کمزوری۔

○ اِسْتَخْذَأَ: مطیع و فرمانبردار ہونا۔ مُسْتَخْذِئ: فرمانبردار، اطاعت شعار، اطاعت پذیر، انقیاد پذیر، منقاد، غلاموں کا سا، غلامانہ، کمینہ، ذلیل، فرد مایہ، تابع فرمان، مطیع۔

خذر: ۱۔ خَذْرَفَ: جلدی کرنا۔ الخُذْرُوف جمع خَذارِيف: تیز چلنے والا۔ پھرکی، چکری۔ اس کو خَرّارة بھی کہتے ہیں۔ بچوں کا ایک کھلونہ جسے البلبل کہا جاتا ہے۔

۲۔ خَذْرَفَهُ بالسيف: کے جسم کے اطراف کی تلوار سے قطع و برید کرنا۔ تَخَذْرَفَ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ الخُذْرُوف جمع خَذارِيف: اونٹوں کا گلہ جو ان سے الگ ہو گیا ہو۔ الخَذارِيف ٹکڑے کہا جاتا ہے۔ تركت السيوفُ راسَهُ خَذارِيفَ: تلواروں نے اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے۔

۳۔ خَذْرَفَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

۴۔ تَخَذْرَفَ النوى: گٹھلیاں پھینک دینا۔

۵۔ المُتَخَذْرِف من الرجال: خوش خلق آدمی۔

○ خُذْرُوف جمع خَذارِيف: (گھومنے والا) لٹو۔ خُذْرُوفِيّ: لٹو جیسا، لٹو کا سا، لٹو کی شکل کا، گھومنے والا۔

خذع: ۱۔ خَذَعَ ـَ خَذْعًا و خَذَّعَ اللحمَ او القرعَ: گوشت یا کدو کی پھانکیں کرنا۔ کہا جاتا ہے: ذهبوا خِذَعَ مِذَعَ: وہ الگ الگ بچھڑ کر چلے گئے۔ الخَذْعة: زمین وغیرہ کا ٹکڑا۔ الخَذِيعَة: ایک قسم کا کھانا جو گوشت کے قیمہ سے بنایا جاتا ہے۔ المِخْذَعَة: چھری۔

۲۔ خَذْعَبَ و خَذْعَلَ البِطّيخَ ونحوه: خربوزہ یا تربوز کی پھانکیں کرنا، پھاڑیاں کرنا۔

○ خَذَفَ ـِ خَذْفًا ہ/ب: کو پھینک دینا۔ مِخْذَفَة: فلاخن، گوپھن۔

خذف: خَذَفَ ـِ خَذْفًا بالحصاة و نحوها: انگلیوں یا گوپھن سے کنکریاں وغیرہ پھینکنا۔ تَخاذَفَ ب عيناه بالدموع: کی آنکھوں کا تیزی سے آنسو بہانا۔ المِخْذَفَة: گوپھن، غلیل۔ الخَذَفان: اونٹوں کی تیز رفتاری کی ایک قسم۔ الخَذُوف جمع خُذُف من الدواب: تیز رفتار جانور جو تیز رفتاری کی وجہ سے دوڑنے میں کنکریاں اڑائے۔ الخَذّافَة: سرین، چوتڑ۔

خذق: خَذَقَ ـُ خَذْقًا الدابّةَ: جانور کو تیز چلانے کے لئے چھڑی وغیرہ چبھونا۔ — البازی: باز کا بیٹ کرنا۔ الخَذْق: گوبر، لید۔

خذل: ۱۔ خَذَلَ ـُ خَذْلاً و خَذْلانًا و خِذْلانًا فُلانًا و عنه: کی مدد ترک کرنا، کو چھوڑ دینا صفت خاذِل جمع خُذّال صفت مفعولی: مَخْذُول جمع مَخاذِيل، خَذَّلَ عنه اصحابَهُ: کے ساتھیوں کو اس کی مدد سے دستکش ہونے کی ترغیب دینا۔ —ہُ: کو پسپائی اور جنگ ترک کرنے پر آمادہ کرنا۔ خاذَلَ مُخاذَلَةً ہ: کی مدد کرنا چھوڑ دینا۔ تَخاذَلَ القوم: ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دینا۔ —ت رِجلاهُ: کی ٹانگوں کا کمزور ہونا۔ الخَذّال: خاذل سے مبالغہ کا صیغہ: بڑا مدد چھوڑنے والا۔ الخُذَلة: وہ شخص جس کی مدد چھوڑ دی جائے۔ الخَذُول: بہت مدد چھوڑنے

والارجل۔ خَذُولُ الرجل: وہ شخص جس کی ٹانگیں کمزوری، آفت یا نشہ کے باعث کام دینا چھوڑ دیں۔
۲۔خَذَلَ ـُ خَذْلاً و خَذَلاناً و خِذلانات الظبية: ہرنی کا ڈار سے پیچھے رہ جانا اور الگ ہو جانا صفت: خاذِل و خُذُول۔
خَذَلَ ـُ خَذْلاً و خِذلاناً ہ/عن: کو چھوڑ دینا، سے دست کش ہونا، بے تعلق ہونا، کو مدد اور دوستی سے محروم کر دینا سے منہ موڑ لینا، (دوست) کو مصیبت میں دیکھ کر انجان ہو جانا۔ پیچھے رہ جانا، ناامید کرنا، مایوس کرنا۔ خذِل: ناکام ہونا، قاصر ہونا، ہمت ہار دینا، پسپائی سہنا، ناامید ہونا خاذَلَ ہ: کو چھوڑ دینا، سے دست کش ہونا، بے تعلق ہونا، کو مدد اور دوستی سے محروم کرنا، سے منہ موڑ لینا، (دوست) کو مصیبت میں دیکھ کر انجان ہو جانا۔ تخاذل: کم طاقت ور ہونا، نڈھال ہونا سست ہونا، کی صحت و طاقت زائل ہونا، گھٹ جانا، کم ہو جانا مرجھانا، کمزور ہونا۔ انخذل: مصیبت میں ساتھ چھوٹ جانا، بے بس ہونا، شکست خوردہ ہونا، مایوس و ناامید ہونا۔ خذلان: مایوسی، ناامیدی۔ تخاذل: تھکن، تھکاوٹ، ضعف، کمزوری، ناتوانی، غنودگی، ڈھیلا ہونا، کشیدگی، کشاکش یا کھچاؤ کا کم ہونا، اختلاف، نااتفاقی، اختلاف رائے۔ انخذال: شکست، بیکسی، مدد اور دوستی سے محرومی، بیوفائی سے ساتھ چھوٹنا، دست کشی، مُتخاذِل: کمزور تھکا ماندہ، ناتواں، سست، کاہل، مضمحل، بے ہمت، تھکا ہوا۔
حذم: ۱۔خَذَمَ ـِ خَذْمًا و خَذَمَ الشیء: کو جلدی سے کاٹنا۔ خَذِمَ ـَ خَذَمًا: کٹ جانا۔ ـ خَذَمًا: تیز چلنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ تخذّم الشیء: کو تکلف سے کاٹنا۔ ـ الشیءُ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اختذم الشیءَ: کو کاٹنا۔ الخذوم جمع خُذُم و الخَذِم و المِخذَم و المُخذَّم من السیوف: کاٹنے والی تلوار۔ الخُذامة: کسی چیز کا ٹکڑا۔ المِخذَم: کاٹنے کا آلہ، چھری، تلوار وغیرہ۔
۲۔خَذِمَ ـَ خَذَمًا: مست ہونا صفت: خذیم۔ اخذمَہٗ الشرابُ: کو شراب کا نشہ میں لانا، مست کرنا۔
۳۔اخذم: ذلت کا اقرار کرنا اور چپ رہنا۔
۴۔اختذم الرجلُ: فیاض اور خوش دل ہونا۔ الخذِم من الرجال: فیاض اور خوش دل آدمی۔
خذا: خَذا ـُ خُذُوًّا و خَذِیَ ـَ خَذًی: ڈھیلا ہونا، ـت الأذنُ: کان کا ڈھیلا ہونا، لٹکا ہوا ہونا۔ خذواء: ڈھیلا کان، لٹکا ہوا کان، اَخذی: ڈھیلے کان والا، لٹکتے کان والا ـ لحمهٗ کے گوشت کا گٹھا

ہوا ہونا۔ اِستخذی: تابع دار اور فرماں بردار ہونا۔
اِستخذاء: حکم برداری، ماتحتی، فروتنی، عاجزی، انکسار، فرمانبرداری، غلامی، چاکری۔ مُستخذٍ: اطاعت گزار، فرمانبردار، خوشامدی، چاپلوس، کاسہ لیس، تابع، مطیع، حکم بردار، اطاعت شعار۔
خرّ: ۱۔خَرَّ ـِ خَریرًا الماءُ او الریحُ: پانی کا شور کرتے ہوئے بہنا، غرغر کرنا، ہوا کا سنسنانا، سرسراہنا۔ صفت: خرّار۔ ـ النائم: سوتے شخص کا خراٹے لینا۔ الخرّ جمع خِرَرة: وہ قطعہ زمین جس میں سیلاب شگاف ڈال دے۔ (ع ا): کان کی جڑ۔ و الخُرّی: چکی کا سوراخ جس میں گیہوں وغیرہ کے ڈالے جاتے ہیں۔ الخرور: پانی اور گڑھے والی زمین، بلی کی آواز۔ الخریر جمع اَخِرَّة: دو ٹیلوں کے درمیان پست زمین، خراٹا (سونے والے کا)۔ الخرّار مونث خرّارة: بہت خراٹے لینے والا۔ الخرّارة: لٹو، پھرکی۔
۲۔خَرَّ ـُ خَرًّا و خُرُورًا: بلندی سے پستی میں گرنا۔ ـ الرجلُ: مرنا۔ ـ لِلّٰہِ ساجدًا: اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ ـ لِوَجهہٖ: منہ کے بل گرنا۔ اَخَرَّ اِخرارًا ہٗ: کو گرانا۔ کہا جاتا ہے: ضربه بالسیف فاخرّہٗ: اس نے اسے تلوار سے مار گرایا۔ اِنخرّ: ڈھلا ہونا۔
۳۔ خَرَّ ـُ خَرًّا و خُرورا علیهم: پرانجان جگہ سے اچانک آپڑنا۔
۴۔خرخر النائم: سوتے ہوئے شخص کا خراٹے لینا۔ ـ النمرُ و السنورُ: چیتے یا بلی کا خرخر کرنا، آواز نکالنا۔ تخرخر بطنہ: پیٹ کا موٹاپے کے سبب ہلنا۔ الخرخر: پانی کی غرغر، ہوا کی سنسناہٹ، سرسراہٹ۔ الخرخار: کثرت سے بہتا ہوا پانی۔
خَرَّ ـِ خَریرًا: پانی کا سرسر بہنا، غرغر بہنا، ہلکورے اٹھنا، ٹپکنا، خراٹے لینا۔ ـ خَرًّا و خُرورًا: گرنا، زمین پر گرنا، منہ کے بل گرنا۔ ـ علی الارض: زمین پر گرنا، خرّ بین یدیه: اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکایا۔ خرّ تحت قدمیه: وہ اس کے پاؤں پر گر پڑا۔ خریر: سرسر، لہر، ہلکی موج، ہلکورا، سرسراہٹ پانی کی روانی کی آواز۔ خرخر: خراٹے لینا۔
خریء: خَرِیَ ـَ خَرءًا و خِراءةً و خَراءةً و خُرُوءًا: پاخانہ کرنا، لید کرنا، بیٹ کرنا، کہا جاتا ہے۔ خرئت بینهم الضبع: ان کے درمیان دشمنی ہو گئی۔ الخُرءُ جمع خُروء: پلیدی، پاخانہ، لید، بیٹ۔ الخِراء: پلیدی، پاخانہ، لید، بیٹ۔ المخراة

و المَخرُأة و المَخرُءة جمع مَخاري: پاخانہ کرنے کی جگہ۔
خَرِیَ ـَ خَرءًا: رفع حاجت کرنا۔ خُرء و خراء: پاخانہ، پیشاب، بول و براز، فضلہ، غلاظت، گوبر، بدن کی غلاظت۔
خرب: ۱۔خَرِبَ ـَ خَرَبًا و خَرابًا البیتُ: گھر کا ویران اور اجاڑ ہونا۔ صفت: خَرِب، مونث خَرِبة (جیسے الدار الخربة ویران اور اجڑا ہوا گھر)۔ خَرَبَ ـِ خَرْبًا ہٗ: کو ڈھانا، مسمار کرنا، تباہ کرنا۔ خرّب البیتَ: گھر کو مسمار کرنا، ڈھانا۔ اَخرب البیتَ: گھر کو ویران چھوڑنا۔ ـ المکانُ: جگہ کا خالی ہونا۔ اِستخرب الرجلُ: آدمی کا مصیبت سے شکستہ حال ہونا، اور تباہی کا طالب ہونا۔ الخَرِب: ویران جگہ۔ کہا جاتا ہے: هو خَرِبُ العِظام: اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں۔ هو خرِبُ الجوف: وہ خالی پیٹ ہے، بھوکا ہے۔ خرب الامانة: وہ امانتداری نہیں رکھتا۔ الخَرِبة: ویران جگہ۔ ـ و الخَرِبة جمع خَرِبات و خِرَب و خَرِب و خرائب: ویران جگہ۔ الخراب جمع اَخرِبة خِرَب: ویران، اجاڑ۔
۲۔خَرِبَ ـَ خَرَبًا الرجلُ: پھٹے یا چھدے ہوئے کان والا ہونا صفت: اَخرب مونث خَرباء جمع خُرْب۔ خرَبَ ـِ خَربًا ہٗ: کو پھاڑنا، چھیدنا، میں سوراخ کرنا۔ خرّب المزادةَ: توشہ دان میں سوراخ کرنا۔ تخرّب العودُ الشجرةَ: کیڑے کا درخت میں سوراخ کرنا۔ استخرب السقاءُ: مشک کا سوراخ دار ہونا۔ الخُرب و الخُرابة و الخُربة جمع خُرَب و اخراب و خُروب: سرین کا گڑھا یا سوئی کا سوراخ (بعض کے نزدیک) ہر گول سوراخ مثلاً کان کا سوراخ۔ الخُربة جمع خُرُبات: چھلنی۔ خَرّابة و خُرّابة الابرة: سوئی کا سوراخ۔ التخاریب مفرد تُخروب (صحیح التخاریب ہے) بھڑوں کے چھتے جیسے سوراخ، وہ سوراخ جن میں شہد کی مکھی شہد جمع کرتی ہے۔
۳۔خَرَبَ ـُ خِرابةً و خَرابةً و خَرْبًا و خُرُوبًا: چور ہونا صفت: خارِب جمع خُرّاب۔
۴۔ اِستخرب الیه: کا مشتاق ہونا۔
۵۔ الخَرِب: پہاڑ کا باہر نکلا ہوا کنارہ۔ بزدل دجل خِرِبّان: بزدل آدمی۔ الخُرب و الخُربة: گڈرے کا تھیلا جس میں وہ اپنا کھانا رکھتا ہے۔ دینی خرابی۔ الخَربة جمع خَربات: عیب، لغزش، ہر وہ چیز جس سے شرم کی جائے، گڈرے کا تھیلا، دینی خرابی، کہا جاتا

ہے ھو صاحب خَربۃ: وہ دینی خرابی رکھتا ہے۔ اسی سے ہےلحی اللّٰہ ادنانا الی کل خَربۃ: اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو کہ اس نے ہم کو ہر مذہبی خرابی سے قریب کردیا۔ما رأینا من فلان خربۃً فی دینہ: ہم نے فلاں شخص کے دین میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔الخَرُّوب و الخُرنُوب واحد خَرُّوبۃ و خَرنُوبۃ (ن) ایک قسم کا درخت جس کے پتے جانوروں کے چارہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور ان سے شیرہ کی ایک قسم بھی نکالی جاتی ہے۔

۶ـخَربَشَ خَربَشَۃً الکتابَ او العملَ: کتاب یا کام کو خراب کردینا۔خَرابِیشُ الخطّ: خط کی بگاڑی ہوئی جگہیں۔

۷ـخَربَصَ الاشیاءَ: چیزوں کو الگ الگ کرنا۔المالَ: مال کو لے اُڑنا۔

۸ـخَربَقَ: تیز چلنا۔ چلنے میں جلدی کرنا۔ــالشیءَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ــالثوبَ: کپڑے کو پھاڑنا۔ــالنبتُ: پودوں کا ایک دوسرے سے متصل ہونا۔اِخرَنبَقَ: زمین سے چمٹنا، پسپا ہونا، سر جھکانا۔الخَربَق (ن): ایک قسم کی گھاس جس کی پتیاں بارتنگ کے مشابہ ہوتی ہیں اور سفید اور کالی ہوتی ہیں۔وہ پودے یا درخت جو دافع جنون سمجھے جاتے ہیں۔

○خُراسان: شمال مشرقی ایران کا ایک صوبہ۔

○خَرَبَ ـِ خَربًا ہ: کو تباہ کرنا، برباد کرنا، گرنا، گرانا، مسمار کرنا، پاش پاش کر دینا، ویران کرنا، اجاڑنا۔خَرِبَ ـَ خَرابًا: تباہ ہونا، برباد ہونا، ویران ہونا، اجڑنا، گرنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔خَرَّبَ ہ: کو تباہ کرنا، اجاڑنا، ویراہ کرنا، گرانا، مسمار کرنا، کو بری طرح نقصان پہنچانا۔تباہ و برباد کرنا، کھنڈر بنا کر چھوڑنا۔أَخرَبَ: بمعنی خَرَّبَ، تَخَرَّبَ: تباہ ہونا یا ہو جانا، برباد ہونا یا ہو جانا اجڑ جانا، ویران ہونا، کا بری طرح نقصان ہونا، کھنڈر ہونا، گرنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔خَرْب: تباہی، بربادی، ویرانی، غارت، تاراج، ہلاکت۔خُرْب: سوراخ، ناکہ، سوئی کا سوراخ، چوتڑ۔خَرِب: تباہ شدہ، برباد شدہ، مسمار شدہ، تباہ کیا ہوا، ویران کیا ہوا، اجاڑا ہوا بنجر، بیابان، اجاڑ، ٹوٹا پھوٹا، شکستہ، خراب خستہ، بری حالت میں، گرنے یا ٹوٹنے کے قریب، تباہ شدہ، برباد شدہ، بگڑی ہوئی (کل) خِربَۃ جمع خِرَب: کھنڈر (کی حالت) تباہی، خاتمہ، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی عمارت، ڈھانچہ یا ڈھانچ۔خَربَۃ و خُربَۃ: مذہب سے بیگانگی یا دشمنی، قانون شکنی، لاقانونیت۔خُربَۃ جمع خُرَب: سوراخ، سوئی کا سوراخ (سوئی کا) ناکہ۔ چوتڑ۔خَرِبَۃ: کھنڈرات (کی حالت)۔خَراب: تباہی، خاتمہ، بربادی، تباہی، ٹوٹ پھوٹ، شکستگی یا خستہ حالی کی حالت، ویرانی، تاخت و تاراج، غارت گری، دل شکستگی، کسمپرسی۔(جمع اَخرِبَۃ) کھنڈرات (کی حالت) خَرابَۃ جمع خَرابات وخرائب: ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی عمارت، ڈھانچہ، یا ڈھانچ، تباہی، کھنڈر۔خَربان و خِربان: تباہ کیا ہوا، برباد کیا ہوا، مسمار کیا ہوا، ویران کیا ہوا، اجاڑا ہوا، بیابان، اجاڑ، ٹوٹا ہوا، بگڑی ہوئی (کل، مشین) تَخرِیب جمع تخریبات: بربادی، ویرانی، غارت، تاراجی، تباہی، تباہ کرنا، انہدام، مسماری، توڑ پھوڑ، تخریب کاری۔عملٌ تَخرِیبیّ: تخریب کاری کا عمل۔خارِب: تباہ کرنے والا برباد کرنے والا، نیست و نابود کرنے والا۔مُخَرِّب جمع مُخَرِّبُون: نیست و نابود کرنے والا، تباہ کرنے والا، تخریب کار۔مُخرِب: نیست و نابود کرنے والا، تباہ و برباد کرنے والا، تباہ کن۔خَرُّوب (اسم جنس واحد خَرُّوبَۃ) جنوبی یورپ کا ایک درخت اس کے بیج پیس کر سفوف کی شکل میں چاکلیٹ کے متبادل طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ٹڈی، ٹڈی کے انڈے کا خول، جنوبی یورپ کے مذکورہ درخت کی پھلی، سینٹ جانس کی روٹی۔خَرُّوبَۃ جمع خَرُّوبات: خشک اشیاء ناپنے ایک پیمانہ۔

○خَربَشَ: نوچنا، کھرچنا، چھیلنا، خراش ڈالنا، گھسیٹنا (شکستہ لکھنا)، جلدی جلدی گھسیٹنا۔خَربُوش جمع خرابیش: خیمہ۔مُخَربَشات: دیوار پر لکھی ہوئی تحریر یا بنائی ہوئی تصویریں۔

○خَربَطَ ہ: کو بےترتیب کرنا، گڈمڈ کرنا، درہم برہم کرنا خلط ملط کرنا۔

خَربَقَ ہ: میں چھید ڈالنا، کو چھیدنا۔خَربَق: وہ پودے یا درخت جو دافع جنوں سمجھے جاتے ہیں۔

خَرت: ۱ـخَرَتَ ـُ خَرتًا الأُذنَ: کان میں سوراخ کرنا۔الخُرت و الخَرت جمع اَخرات و خُرُوت: سوئی وغیرہ کا ناکہ، کہا جاتا ہے۔أَضیَقُ من خرت الابرۃ: سوئی کے ناکہ سے زیادہ تنگ۔ اجعلْ العودَ فی خرت الفاس: کلھاڑی کے چھید میں لکڑی کا دستہ لگاؤ۔المَخرُوط (مفع): پھٹے ہوئے کان، ناک یا ہونٹ والا۔۲ـخَرَتَ ـُ خَرتًا الارضَ: زمین کے راستوں سے واقف ہونا۔خَرِتَ ـَ خَرَتًا: ہوشیار راہبر ہونا۔خِرِّیت جمع خَرارِیت و خَرارِت: ماہر و ہوشیار گائیڈ جو بیابان کے پوشیدہ راستوں سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔المَخرَت: صاف اور کھلا راستہ۔

۳ـالمُخرُت و الخَرُت جمع اَخرات و خُرُوت: سینہ کے قریب چھوٹی پسلی۔المُخرِت من الذئاب: تیز رفتار بھیڑیا۔

○خَرَتَ ـُ خَرتًا ہ: میں سوراخ کرنا، کو چھیدنا، بیدھنا، برمانا، میں برمے سے سوراخ کرنا۔خُرت و خَرت جمع اَخرات و خُرُوت: سوراخ، چھید، برمے کا سوراخ، آنکھ، سوئی کا ناکہ کاخ تکمہ۔ چھلا۔خِرِّیت: تجربہ کار، ماہر، مشاق، گاندخَرِّیت: گینڈا۔

خرث: الخرثاء: وہ عورت جس کی کوکھیں موٹی اور گوشت ڈھیلا ہو۔الخُرثیّ: ردی گھٹیا سامان۔من الکلام: بے فائدہ کلام۔

خرج: ۱ـخَرَجَ ـُ خُرُوجًا و مَخرَجًا من موضعہ: اپنی جگہ سے باہر نکلنا۔ــبہ: کو نکالنا۔ــعلیہ: سے لڑنے کے لئے نکلنا۔ــالی فلانٍ من دَینِہ: کا قرض ادا کرنا، چکانا۔خَرَّجَہُ من المکان: کو جگہ سے نکالنا۔ــالمسالَۃَ: مسئلہ کی وجہ بیان کرنا۔اَخرَجَ الشیءَ: کو نکالنا۔خارَجَ الشرکاءُ: شرکاء کا جائداد کو آپس میں تقسیم کرلینا۔اِختَرَجَ الشیءَ: کو نکالنا، سے استنباط کرنا۔ــفلانًا: سے نکلنے کے لئے کہنا۔اِستَخرَجَہُ: سے باہر نکلنے کے لئے کہنا۔ــالشیءَ: سے استنباط کرنا۔ــالمسالَۃَ: مسئلہ کو حل کرنا۔الخَرجَۃ: ایک دفعہ کا نکلنا۔الخُراج واحد خُراجَۃ جمع خُراجات: پھوڑے، پھنسیاں، آبلے۔الخارِج: ہر شئے کا ظاہر، نکلنے والا۔الخارجۃ جمع خارجات: الخارج کا مونث۔الخارِجیّ: بیرونی۔الخارِجِیَّۃ: خارجی کا مونث: (دوسری حکومتوں سے تعلقات رکھنے والا) دفتر خارجہ۔وَزِیرُ الخارِجِیَّۃ: وزیر (امور) خارجہ۔الخُرُجَۃ: بہت نکلنے والا۔رجلٌ خُرَجَۃ وُلَجَۃ: بہت نکلنے اور داخل ہونے والا آدمی۔الخَرّاج: بہت نکلنے والا۔ رجل خَرّاجٌ ولّاجٌ: بڑا ہوشیار، حیلہ گر۔یومُ الخُرُوج: عید کا دن، قیامت کا دن۔المَخرَج جمع مَخارِج (مص) المَخرَج جمع مَخارِج (مص): نکلنے کی جگہ، بدن انسانی میں پاخانہ کا مقام۔ــعند القراء و الصرفیین: منہ میں حرف کے نکلنے، ظاہر ہونے اور ایک دوسرے سے ممیز اور جدا ہونے کی جگہ۔المُخرَج (مفع): نکلنے کی جگہ۔

۲ـخَرَجَ ـُ خُرُوجًا و مَخرَجًا فی العلم: علم میں فائق و ماہر ہونا، نابغہ ہونا۔اِختَرَجَ الشیءَ: کو ایجاد کرنا۔الخارِجیّ: ذاتی قابلیت سے سرداری حاصل

کرنے والا اور خود بہادر اور شجاع، جب کہ سرداری نہ تو خاندانی ہو اور نہ اس کا باپ بہادر ہو۔ سبقت لیجانے والا گھوڑا جس کے ماں باپ ایسے نہ ہوں۔

۳۔ خرَجَ ـُ خُرُوجًا و مَخرَجًا: خرجت الرعیةُ علی الملك: رعایا کا بادشاہ کے خلاف علمِ بغاوت بلند کرنا۔ الخارجیّ: بادشاہ سے بغاوت کرنے اور جماعت سے نکل جانے والا اور خوارج کے مذہب کا معتقد۔ الخوارج: بادشاہ اور جماعت کے مخالف، باغی لوگ، جماعت سے الگ ہونے والے لوگ۔ سات بڑے اسلامی فرقے جنہیں خارجی فرقے (الفِرقُ الخارجیة) کہا جاتا ہے۔

۴۔ خرّجَ الارضَ: زمین پر خراج مقرر کرنا، عائد کرنا۔ اَخرجَ الرجلُ: خراج ادا کرنا۔ خارجَ السیّدُ عبدَہُ: آقا کا اپنے غلام سے ماہوار مقررہ رقم کی ادائیگی کا معاملہ کرنا۔ استخرجتِ الارضُ: زمین کا کاشت کے لئے درست کیا جانا۔ الخَرْج جمع اَخراج: خراج اس فرق کے ساتھ کہ خرج انسان کے عوض ہو اور خراج زمین کا مالیہ ہے، آمدنی کا الٹ یعنی خرچ۔ الخراج (خاء کی تثلیث کے ساتھ) جمع اَخراج و اَخرجة وجمع اخاریج: زمین کا محصول، ٹیکس، جزیہ۔

۵۔ خرّجَ الولدَ فی الادب: بچہ کو تربیت دینا، تعلیم دینا، با آدب اور مہذب بنانا۔ تخرّجَ: تربیت و تعلیم پا کر سند یافتہ ہونا، فارغ التحصیل ہونا۔ مُخرّج و خِرّیج و متخرّج: فارغ التحصیل، فاضل، سند یافتہ، گریجوایٹ۔

۶۔ خرّجَ العملَ: کام کو ایک دوسرے کے خلاف مختلف قسم اور رنگوں کا کر دینا۔ اخرجّ و اخراجّ الحیوانُ: جانور کا سیاہ و سفید رنگ والا ہونا۔ صفت اَخرَج مونث خرجاء۔

۷۔ خرّجَ الغلامُ اللوحَ: لڑکے کا تختی کے کچھ حصے پر لکھنا اور کچھ حصہ بغیر لکھے چھوڑ دینا۔ واَخرجتِ الراعیةُ المرتعَ: مویشی کا چراگاہ کا کچھ حصہ چر لینا اور کچھ بے چرا چھوڑ دینا۔

۸۔ الخَرُوج جمع اَخراج: اول اول گھرتے وقت کا بادل۔ الخُرج جمع خِرَجة: خرجی۔

○ خرجَ ـُ خروجًا: باہر جانا، باہر نکل جانا۔ ـمن: سے نکلنا، برآمد ہونا۔ ـ: گاڑی باہر لیجانا، سوار ہو کر نکلنا، کسی گاڑی میں باہر جانا، باہر کو بہنا، پسینہ نکلنا، زور سے چھلکنا، دور جانا، چھوڑنا، روانہ ہونا۔ سونے کے لئے جانا، باہر کو نکلنا، آگے کو نکلنا، باہر کو نکلا ہوا ہونا۔ ـمن: کو ترک کرنا، سے اترنا، سے باہر نکلنا، سے نکلنا، جاری ہونا، ظہور ہونا، پیدا ہونا، سے شروع ہونا، آغاز ہونا، کے نتیجہ میں واقع ہونا۔ ـعن: سے علیحدہ ہونا، الگ ہونا، کی رکنیت چھوڑنا، سے قطع تعلق کر لینا، کے مخالف رائے رکھنا یا کے مخالف رائے کا اظہار کرنا سے اختلاف رکھنا، کسی انتظام یا اصول سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، سے مستثنیٰ ہونا، دیئے ہوئے موضوع سے باہر ہونا، خارج از موضوع ہونا، موضوع سے آگے چلا جانا، تجاوز کرنا، سے الگ، مختلف، جدا یا علیحدہ ہونا، سے غیر متعلق ہونا، میں شامل نہ ہونا، سے متعلق نہ ہونا۔ لایخرج عن ...: یہ ..... تک محدود ہے، یہ صرف ...... ہے۔ ـ: (جنگ میں جانا، ـ علی: پر حملہ کرنا، دھاوا بولنا، کے خلاف لڑنا، کے خلاف بغاوت کرنا۔ ـعلی: (قاعدہ، قانون) کی خلاف ورزی کرنا، کو توڑنا، خرجَ علیہ ب: کا کے ساتھ سامنا کرنا، سے کیساتھ بات کرنا۔ ـب: کو باہر نکالنا، باہر لانا، بے دخل کرنا، نکال دینا۔ ـ ب عن: کو سے باز رہنے کو کہنا۔ ـ ب: کو دریافت کرنا، معلوم کرنا۔ خرج عن الخط: (ٹرین کا) پٹری سے اتر جانا۔ خرّجَ ہ، ہ: کو باہر نکالنا، کو ہٹانا، بے دخل کرنا، جلاوطن کرنا، نکال دینا۔ ـ ہ: کو خارج کرنا، مستثنیٰ کرنا۔ ـ ہ فی: کی (کسی ہنرمندی وغیرہ میں) تربیت کرنا۔ ـ ہ: کو تعلیم دینا، کی تربیت کرنا۔ ـ ہ: کو مقطر کرنا، کشید کرنا، نکالنا، زور لگا کر نکالنا، کو اکٹھا کرنا سے نتیجہ نکالنا یا اخذ کرنا مستنبط کرنا، کی وضاحت کرنا، تشریح کرنا، کو واضح کرنا، کی توضیح کرنا، کی تفسیر بیان کرنا۔ اَخرجَ ہ، ہ: کو جہاز یا ٹرین سے اتارنا (جیسے فوجوں کو جہاز یا ٹرین سے اتارنا) کو بے دخل کرنا۔ ـ ہ: (برقی لہروں وغیرہ) کو نکالنا، چھوڑنا۔ (زبان وغیرہ کا) نمایاں ہونا نکلنا، کو ڈھونڈ کر نکالنا، عوام کے علم میں لانا، کو نکالنا، زور لگا کر نکالنا۔ ـ ہ من: کو (ملک) سے جلاوطن کرنا، بے دخل کرنا، کو سے جلاوطن کرنا، کو (کسی عہدہ) سے برخاست کرنا، نکال دینا، ہٹا دینا۔ اخرجہ من ثروتہ: کی جائداد لوٹ لینا، کو اس کی دولت سے بیدخل کرنا، کی جائیداد غصب کرنا۔ ـ ہ: سر وغیرہ نکالنا، (رائے) پیش کرنا، بیان کرنا، ظاہر کرنا۔ ـ ریحاً: پاد مارنا۔ ـ ہ: کو تعلیم دینا، کی تربیت کرنا، کو تربیت دینا۔ ـ ہ: (کھیل، ڈرامہ وغیرہ) کرنا، سٹیج پر لانا، پیش کرنا۔ ـ روایةً: (فلم) بنانا، کی شوٹنگ کرنا، پیش کرنا۔ ـ روایةً: (فلم) بنانا، کی شوٹنگ کرنا، (کو) فلمانا۔ ـ ہ عن: کو سے مستثنیٰ کرنا، خارج کرنا۔ ـ: کو نکالنا، کھینچ کر نکالنا، زور سے نکالنا، کو منتخب کرنا، چننا۔ تخرّجَ: تعلیم یافتہ ہونا۔ ـ فی / من: سکول کالج میں تربیت حاصل کرنا۔ ـ فی: کسی شعبہ میں تربیت حاصل کرنا۔ ـ فی / من: کسی سکول کالج سے فارغ التحصیل ہونا، فاضل ہو کر نکلنا، سند یافتہ ہونا۔ تخارجَ: جدا ہونا، الگ ہونا، ایک دوسرے سے پیچھے ہٹنا، الگ ہونا، میل جول نہ رکھنا، مراسم نہ ہونا، دور رہنا۔ ـ عن لِ: کو کے حوالے کرنا، کو کسی کو منتقل کرنا، کو کسی کو سونپنا، تفویض کرنا۔ اِستخرجَ ہ من: کو سے نکالنا۔ ـ ہ: (معدنیات) کو کان سے نکالنا، حاصل کرنا، کو سے بنانا، حاصل کرنا، کو سے نقل کرنا، اقتباس کرنا، انتخاب کرنا، کو سے حاصل کرنا، مشتق کرنا، لینا، وصول کرنا، پانا، نکالنا، سے نتیجہ نکالنا یا اخذ کرنا، سے حساب کا سوال نکالنا، سے کا حساب لگانا، سے کو گننا۔ ـ ہ من: کوئی چیز جیسے تعجب، تعریف وغیرہ کسی سے کرانا۔ ـ ہ: کو دریافت کرنا، معلوم کرنا۔ خَرج: خرچ، صرفہ، رقم، لگا ہوا سرمایہ، خرچہ، زمین کا لگان، محصول، کوئی مناسب و موزوں چیز، جو کسی شخص کا جائز حق ہو، جس کا کوئی شخص مستحق ہو، جس کی کسی شخص کو ضرورت ہو، راشن (خوراک) جمع خروجات: گوٹ، لیس، فیتہ، کناری وغیرہ، کنارہ، کور، حاشیہ، مغزی، سنجاف (جمع): لیس، فیتہ، جھالر، کلابتون، (کھانے کی چیز کے) لوازمات۔ ھذا خرجُك: یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں ضرورت ہے، جس کے تم مستحق ہو، خرجُ المشنقة: پھانسی پر لٹکائے جانے کا مستحق، خُرج جمع خِرَجة: خورجین، تھیلا، سفری جامہ دان۔ خَرجة جمع خَرَجات: باہر جانے کا راستہ، روانگی، آگے کو نکلا ہوا حصہ، گلٹی، گومڑا، آماس، ورم پھولن، ابھار، سوجن، چھجا، پہاڑ کا سامنے کا نکلا ہوا حصہ، نکلا ہوا حصہ، جنازہ، کفن، خَراج: خراج، ٹیکس، زمین کا محصول، خراجی: زمین کے محصول سے متعلق، یا زمین کے محصول (خراج) کا، خراجی ٹیکس لگے اور قابل کاشت رقبہ کا یا سے متعلق۔ خُراج (اسم جنس واحد خُراجة جمع خُراجات) پھوڑے، پھنسیاں وغیرہ، گومڑا، گلٹی، دنبل، بخت ابھار۔ خُروج: باہر نکلنا، خروج، آشکارا ہونا، ظاہر ہونا، روانگی، بنی اسرائیل کا مصر سے کوچ، ترک وطن، ہجرت، جلاوطنی۔ ـعلی: کے خلاف حملہ، پر یورش، محاصرہ سے نکل کر حملہ، پر حملہ، خروج۔ عن الخط: ٹرین کا پٹری سے اتر جانا۔ خِرّیج جمع خِرّیجون (سکول کالج یا یونیورسٹی کا) گریجوایٹ، سند یافتہ، فاضل۔ مَخرَج

جمع مَخَارِج: باہر نکلنے کی جگہ، (کسی مشکل صورت حال سے) باہر نکلنے کا راستہ، نکاس، خلاصی، فرار، بچ نکلنے کی صورت، نقل مکانی، داؤ پیچ، چال، بچنا، عذر، معذرت، اعتذار، صاف تلفظ، قطب مَتَنِّی، منفی برقیرہ، علم مخارج الحروف: صوتیات۔ تولّی الاخراج: (فلم، تھیٹر کی) ہدایت کاری کرنا۔ مِن اخراجِ ... : کی ہدایت کاری (والی فلم)۔ تَخَرُّج (سکول کالج سے) گریجوایشن، سند فضیلت، فارغ التحصیل ہونا۔ خَارِج باہر کا، بیرونی، غیر ملکی۔ بیرونی ملک، ممالک، حاصل تقسیم، خارج قسمت (حساب میں)، خارِجَ: کے باہر، خارجا: باہر، خارجًا مِن: کے باہر، کے علاوہ، سے قطع نظر، فی الخارج: ملک سے باہر، پردیس میں، غیر ممالک میں، باہر۔ الی الخارج: ملک سے باہر، پردیس میں، غیر ممالک کو، بیرونی دنیا کو، باہر، باہر کی طرف الخارجه: وسطی مصر کا ایک شہر، خارگہ نخلستان میں۔ خارِجِی: بیرونی، باہر کا، غیر ملکی، غیر مقیم۔ عِيَادَة خَارِجِيَّة: ہسپتال کا بیرونی مریضوں کا شعبہ۔ وزارة الخارجيه: وزارت خارجہ۔ وزارت امور خارجہ تلمیذ خارجی: دن کا طالب علم، طالب علم جو بورڈنگ سکول میں نہ رہتا ہو۔ خَوَارِج: (اسلام کا قدیم ترین مذہبی فرقہ، خوارج، اختلاف رائے کرنے والے، اکثریت کی رائے کے مخالف، برگشتہ ہونے والے، باغی لوگ، منحرفین، مُخْرِج جمع مُخْرِجون (سکرین یا سٹیج کا) ہدایت کار۔ مُخْرَج: (کتاب وغیرہ سے) اقتباس، انتخاب، خلاصہ، مُخْرَجات: بول و براز فضلہ گوبر۔ مُتَخَرِّج من باقی (کسی سکول یا کالج کا) سند یافتہ، فارغ التحصیل۔ مُسْتَخْرَج جمع مستخرجات اقتباس۔ —من: سے اقتباس: کی جزوی نقل۔ اخراج: تخارج اور استخراج کے معنی کے لئے ان کے افعال اَخْرَجَ، تَخَارَجَ و اِسْتَخْرَجَ سے رجوع کریں۔

خرد: ا۔ خَرِدَ ـَ خَرَدَاتِ الجارِيَةُ: لڑکی کا باکرہ ہونا، دوشیزہ ہونا۔ —الرجلُ: دیر تک خاموش رہنا، باتیں کم کرنا۔ —اَخْرَدَ الغلامَ: لڑکے کا ذلت کی وجہ سے شرم کرنا۔ —الرجلُ: دیر تک خاموش رہنا، باتیں کم کرنا۔ تَخَرَّدَتِ الجارِيَةُ: لڑکی کا باکرہ ہونا، دوشیزہ ہونا۔ الخَرُود والخريد جمع خرائِد و خُرُد خُرَّد: باکرہ لڑکی، شرمیلی، زیادہ تر خاموش رہنے والی اور نیچی آواز میں بولنے والی لڑکی۔ صوتٌ خريدٌ: نرم حیادار آواز۔ لؤلؤة خريد: ناشگفتہ موتی۔ الخَرِيدَة جمع خَرَائِد و خُرُد و خُرَّد: باکرہ، زیادہ تر خاموش، نیچی آواز میں بولنے والی شرمیلی لڑکی، ناسفتہ موتی۔

۲۔ اَخْرَدَ الی اللهو: لہو کی طرف مائل ہونا۔

۳۔ الخُرْدَة: چھوٹا چھوٹا متفرق ساز و سامان (فارسی لفظ) الخُرْدَجِی: خردہ بیچنے والا، معمولی تاجر، بساطی۔

۴۔ خَرْدَقَ العملَ: کام کو بگاڑنا (عام زبان میں)، فصیح عربی میں اسے خَرْبَقَ کہتے ہیں۔ الخُرْدُق (اع): سرمہ یا سکہ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں (ترکی لفظ)۔

۵۔ خَرْدَلَ الطعامَ: کھانے کا اچھا حصہ کھانا۔ —اللحمَ: گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹنا۔ الخَرَادِل (ط): گوشت کے ٹکڑے۔ لحمٌ خَرَادِيل: ٹکڑے کیا ہوا گوشت۔ الخَرْدَل واحد خَرْدَلَة (ن): رائی، الخَرْدَلِيَّة (ز) مستطیل کھلا اور خشک پھل جو دو چھلکوں سے مرکب ہوتا ہے اور دیوار کی طرح ہوتا اور پکنے پر پھل کو دو قسموں میں تقسیم کر دیتا ہے۔

○ خَرِدَ ـَ: باکرہ ہونا، معصوم اور پاکدامن ہونا۔ خَرِيدَة جمع خَرَائِد و خُرُد: باکرہ، ناسفتہ موتی خُرْدَة: ردی دھات، ردی لوہا۔ جمع خُرْدَوَات: فروخت کی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے، متفرق چھوٹی چھوٹی چیزیں، فروخت کی نرالی چیزیں، خواتین کے لئے رنگ برنگ کی چیزیں، سجاوٹی سامان۔ خُرْدَجِی: چھوٹی متفرق چیزیں بیچنے والا۔ خَرْدَق اور خُرْدُق: چھرہ، کارتوس۔

○ خَرْدَل (اسم جنس واحد خَرْدَلَة: رائی، رائی کے بیج۔

خرز: ا۔ خَرَزَ ـُ خَرْزًا الجلدَ: کھال کو ستالی سے سینا۔ الخَرَز (واحد خَرَزَة): ڈور میں پروئے ہوئے گھونگھے، سلیمانی منکے یا کوڑیاں شیشے وغیرہ کے سوراخ دار دانے۔ پتھر (جیسے الماس اور یاقوت) کے نگینے۔ خَرَزُ الظهر: ریڑھ کی ہڈی کے منکے۔ خَرَزَاتُ الملِك: بادشاہ کے تاج کے جواہر۔ الخُرْزَة جمع خُرَز: سوراخ اور اس کا دھاگا۔ الخَرِيز (طب): نقرس بیماری جیسا درد۔ المِخْرَز جمع مَخَارِز: ستالی۔ الخِرَازَة: موچی کا پیشہ۔ الخَرَّاز: موچی۔ المُخَرَّز من الطيور: وہ پرندہ جس کے بازوؤں پر پھنسیاں پڑی ہوں۔

۲۔ خَرَزَ ـَ خَرْزًا: کمزوری کے بعد اپنے معاملہ کو درست اور مستحکم کرنا۔

○ خَرَزَ ـُ خَرْزًا ہ: کو چھیدنا، برمانا، میں سوراخ کرنا، بدھنا۔ خَرَز (اسم جنس واحد خَرَزَة): موتی۔ مِخْرَز جمع مَخَارِز: سوا، ستاری، ستالی، سوراخ کرنے کا آلہ چھیدنے کی مشین، پنچ، مِخْرَاز: بمعنی مِخْرَز۔

خرس: ا۔ خَرِسَ ـَ خَرَسًا: گونگا ہونا، کی آواز سنائی نہ دینا۔ اَخْرَسَهُ اللّٰه: اللہ کا کسی کو گونگا بنانا۔ تَخَارَسَ: بناوٹی گونگا بننا۔ الأَخْرَس جمع خُرْس و خُرْسان و اخارِس مؤنث: خَرْسَاء: گونگا، کہا جاتا ہے: ولانی عُرْضًا اَخْرَسَ اَمْرَسَ: اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور بات نہیں کی۔ الخَرْساء: الاخرس کا مؤنث۔ نہ گرجنے اور نہ چمکنے والا بادل، کتيبة خَرْساء چپ بے آواز بٹالین۔

۲۔ خَرَّسَ على النُفَساء: زچہ کو اس کی خوراک دینا۔ تَخَرَّسَتِ النُفَساءُ: زچہ کا اپنے لئے کھانا تیار کرنا۔ اس سے ضرب المثل ہے: تَخَرَّسِي يا نفسُ لا مُخَرِّسَةَ لكِ: تو اپنا کام خود ہی کر کوئی دوسرا کام کرنے والا نہیں۔ الخُرْسِ والخِرَاس (ط): بچہ کی پیدائش کا کھانا۔ الخُرْسَة والتَخْرِسَة (ط): زچہ کا مخصوص کھانا۔ اچھوانی، الخَرُوس: عورت جو پہلی بار حاملہ ہو، زچہ جس کے لئے اچھوانی تیار کی جائے۔

۳۔ اَخْرَسَ و استخرست الارضُ: زمین کا ناقابل زراعت ہونا۔ الخِرْس: زراعت کے ناقابل زمین۔

۴۔ الخَرْس والخِرس جمع خُرُوس: مٹکا الخَرَّاس: مٹکے بیچنے والا، مٹکے بنانے والا لبنٌ اَخْرَس: جما ہوا دودھ الخرساء: مصیبت۔

○ خَرِسَ ـَ خَرَسًا: گونگا ہونا، خاموش ہو جانا خاموش رہنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اَخْرَسَ ہ: کو خاموش کرنا، کی زبان بندی کرنا۔ خَرَس: گونگا پن اَخْرَس مونث خَرْساء جمع خُرْس و خرسان: گونگا خُرْسان: گونگا۔ خَرَسان و خَرَسَانَة: کنکریٹ، (کنکریٹ اور سیمنٹ کا مرکب) خَرَسَانَةٌ: کنکریٹ، (کنکریٹ اور سیمنٹ کا مرکب) خَرَسَانَةٌ مُسَلَّحَة: کنکریٹ جس میں دھات کا سریا یا تاریں شامل کی گئی ہوں، تاکہ مزید مضبوط ہو جائے۔

خرش: ا۔ خَرَشَ ـِ خَرْشًا و خَرَّشَ ہُ: کو خراش لگانا، کھرچنا۔ —ہ الذبابُ: کو مکھی کا کاٹنا۔ خَارَشَ الكلبَ: کتے کو برانگیختہ کرنا۔ —ہ: کو خراش لگانا —ہ الذبابُ: کو مکھی کا کاٹنا۔ تَخَارَشَتِ الكلابُ: کتوں کا ایک دوسرے پر حملہ کر کے نوچنا، پھاڑنا۔ اِخْتَرَشَ ہ: کو خراش لگانا۔ —تِ الجِراءُ: کتوں کے بچوں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ —ہُ الذبابُ: کو مکھی کا کاٹنا۔ الخَرَش (واحد خَرَشَة) جمع

خُرُوش (ح): مکھی۔

۲۔ خَرَشَ ـِ خَرْشًا الغُصْنَ: ٹہنی کو ٹیڑھی چھڑی سے اپنی طرف کھینچنا۔ لِعِیالہ: بچوں کے لئے رزق طلب کرنا، کمانا۔ خَرَّشَ الغصن: ٹہنی کو ٹیڑھی چھڑی سے اپنی طرف کھینچنا۔ خَارَشَ ہُ الشَیءَ: سے چیز چھیننا، زبردستی لے لینا۔ اِخْتَرَشَ لعیاله: بال بچوں کے لئے رزق طلب کرنا، کمانا۔ منه الشيءَ: سے کوئی چیز چھیننا، زبردستی لے لینا۔ المِخْرَش و المِخْراش: ٹیڑھی چھڑی۔ عام لوگ اسے مَعْكُورَة کہتے ہیں۔

۳۔ الخَرْش جمع خُرُوش: گھر کا ردی پرانا سامان۔ الخُراشَة: برادہ، کہا جاتا ہے لی عنده خُراشَة: اس کے پاس میرا تھوڑا سا حق ہے۔ الخِرشاء جمع خَراشِيّ: سانپ کی کینچلی، انڈے کا چھلکا، غبار۔ خِرْشاءُ العسل: موم، وہ شہد جس میں مردہ مکھیاں پڑی ہوں۔

۴۔ خَرْشَبَ العملَ: کام کو اچھی طرح نہ کرنا۔

۵۔ الخَرْشَفة: مختلف کام، حرکت۔ و الخِرشاف: سخت زمین جس پر چلنا دشوار ہو۔ الخُرْشُوف (ن): ایک قسم کا خاردار پودا۔ (عام زبان میں)

۶۔ الخَرشوم جمع خَراشِم: وادی یا ہموار زمین پر نکلی ہوئی پہاڑ کی چوٹی، بڑا پہاڑ۔

○ خَرْشُوف (اسم جنس واحد خَرْشُوفَة) جمع خَراشِيف: خرشف، ہاتھی چوک۔ (اسے أرضِي شَوكِي بھی کہا جاتا ہے یہ ایک قسم کا پودہ ہے جس کے پھول کو سبزی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے)۔

خرص: ۱۔ خَرَصَ ـُ خُرْصًا: جھوٹ بولنا۔ تَخَرَّصَ و اِخْتَرَصَ علیه: پر بہتان باندھنا، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا۔ الخَرّاص: جھوٹا۔

۲۔ خَرَصَ ـُ خَرْصًا فی الأمر: کے بارے میں قیاس آرائی کرنا، اندازہ لگانا، انکل سے کہنا۔ ـہُ: کا اندازہ کرنا۔ کہا جاتا ہے خَرَصَ النخلةَ: اس نے کھجور کے درخت پر پھل کا اندازہ لگایا۔ الخِرْص: اندازہ کہا جاتا ہے۔ کم خِرْصُ أرضك: تمہاری زمین کا اندازہ اور تخمینہ کیا ہے؟

۳۔ خَرَصَ ـُ خِراصةَ الشیءَ: کو درست کرنا۔

۴۔ خَرِصَ ـَ خَرَصًا: کو بھوک لگنا، ٹھنڈ لگنا۔ صفت: خَرِص و خارِص۔

۵۔ تَخَرَّصَ و اِخْتَرَصَ: توشہ دان میں مطلوبہ چیز رکھنا۔ الخِرص: توشہ دان۔

۶۔ الخِرص: چھوٹا نیزہ، مٹکا، ٹوکری۔ و الخُرْص جمع خِرصان و خُرْصان: سونے چاندی وغیرہ کی انگوٹھی۔ ـ جمع خِراص و أخْراص: کھجور کی شاخ۔ ـ و الخُرَص جمع اخراص: شہد نکالنے کی لکڑی۔ الخُرْصَة: حصہ، زچہ کا کھانا۔ الخَرِیص: ٹھنڈا پانی، درختوں کی جڑوں میں جمع شدہ پانی۔ دریا کا کنارہ یا پہلو۔ المِخْرَص جمع مَخارِص: نیزہ۔

○ خَرَصَ ـُ خَرْصًا ہ: کا تخمینہ لگانا، قیاس لگانا، کو انکل یا اندازہ سے کہنا، کا اندازہ کرنا، اندازہ لگانا، کے بارے میں قیاس آرائی کرنا، کے بارے میں اندازے لگانا۔ ـ: جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا۔ تَخَرَّصَ علی: کے خلاف جھوٹ گھڑنا، جھوٹے الزامات تراشنا، الزام تراشی کرنا۔ خِرْص و خُرْص جمع خِرصان و خُرصان: (کان کی) بالی، آویزہ بندہ۔ خَرّاص جمع خَرّاصون: جھوٹا، افترا پرداز مفتری، بدگو۔

خرط: ۱۔ خَرَطَ ـُ خَرْطًا العودَ: خراد سے لکڑی کو برابر اور ہموار کرنا۔ الخَرّاط: خرادیہ۔ الخُراطَة: برادہ۔ الخِراطَة: خرادے کا پیشہ۔ المِخْرَطَة جمع مَخارِط (حی): خراد۔ المَخْرُوط: خراد کیا ہوا۔

۲۔ خَرَطَ ـُ خَرْطًا الورقَ: درخت کے پتے ہاتھ کے ساتھ کھینچ کر اتارنا۔ ـ الشجرةَ: درخت کے پتے کھینچ کر اتارنا۔ ضرب المثل ہے دونَ ذلك خَرْطُ القَتاد: یہ کام کرنے سے پہلے، آدمی کو ناممکن کو ممکن بنانا ہوگا۔ ـ العنقودَ: انگور کا خوشہ منہ میں رکھ کر، بغیر دانہ کے نکالنا۔ اِخْتَرَطَ العنقودَ: انگور کے نمونہ کو منہ میں رکھ کر بغیر دانہ کے نکالنا۔ المَخْرُوط: تھوڑی داڑھی والا۔

۴۔ خَرَطَ ـُ خَرْطًا الحدیدَ: لوہے کو لمبا کرنا۔ اِنْخَرَطَ الجسمُ: جسم کا دبلا اور لاغر ہونا۔ الخَرَط: جسم کی کمزوری۔ المَخْرُوط: لمبا چہرہ، مخروطی شکل والا تنگ کنواں۔

۵۔ خَرَطَ ـِ خَرْطًا الجَواهِرَ: جواہرات کو تھیلے میں ڈالنا۔ ـ الرجل فی الامر: کو کسی کام میں شامل کرنا۔ اِنْخَرَطَت الخَرزةُ فی السلك: منکوں کا ڈورے میں پرو دیا جانا۔ ـ فی المکان: کسی جگہ جلدی سے داخل ہونا۔ الخَرِیطَة: چمڑے وغیرہ کی تھیلی۔

۶۔ خَرَطَ ـِ خَرْطًا البازیَ: باز کو شکار پر چھوڑنا۔ تَخَرَّطَ فی الامور: معاملات میں دلیری و خودسری کرنا۔ اِنْخَرَطَ الصقرُ: شکرے کا شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ ـ من المکان: کسی جگہ سے نکلنا۔ ـ فی الامر: کسی کام میں جہالت و نادانی سے لگ جانا کہا جاتا ہے: انْخَرَطَ علینا بالقبیح: وہ ہماری طرف فحش گوئی اور بد زبانی سے متوجہ ہوا۔ اِخْتَرَطَ السیفَ: تلوار سونتنا۔ اِسْتَخْرَطَ فی البکاء: پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ الخَرُوط جمع خُرُط: منہ زور جانور، بے عقلی اور نادانی سے کاموں میں دخل دینے والا۔

۷۔ خَرَطَ ـُ خَرْطًا الرجلَ: جھوٹ بولنا۔ الخَرّاط: جھوٹا۔

۸۔ خَرَطَ ـِ خَرْطًا ہُ الدواءُ: دوا کا پیٹ کو نرم کرنا اور دست لانا۔ خَرِطَ ـَ خَرَطًا و أخْرَطَتِ الشاةُ او الناقةُ: بکری یا اونٹنی کو خَرَط کی بیماری لگنا۔ خَرَّطَ ہُ الدواءُ: دوا کا کسی کے پیٹ کو نرم کرنا اور دست لانا۔ اِنْخَرَطَ بطنُ الانسان: کو اسہال کی شکایت ہونا۔ الخَرَط (طب): جانوروں کی ایک بیماری جس کی وجہ سے تھنوں سے جما ہوا دودھ نکلتا ہے۔ المُخْرِط جمع مَخارِیط: بکری یا اونٹنی جسے تھنوں سے جما ہوا دودھ نکلنے کی بیماری لاحق ہو۔

۹۔ خَرِطَ ـَ بالطعام: کھانے سے پھندا لگنا۔

۱۰۔ الخَرِیطَة: زمین یا اس کے کسی حصہ کا نقشہ اسے خارِطة بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی فصیح عربی المُصَوَّر یا المُخطَّط ہے۔ المَخْرُوطَةُ من الابآر: تنگ کنواں۔ الخِرطِیط جمع خَراطِیط (ح): منقش پاؤں والی تیتری / آنجلی۔

۱۱۔ الخُرْطال (ن): جئی۔

۱۲۔ خَرْطَمَ ہُ: کے سونڈ پر مارنا۔ اِخْرَنْطَمَ: ناک اونچی کرنا، تکبر کرنا۔ الخُرْطُوم جمع خَراطِیم و الخُرْطُم جمع خَراطِم: ناک، ہاتھی کی سونڈ۔ خَراطِیمُ القوم: قوم کے سردار۔

۱۳۔ اِخْرَنْطَمَ: غضبناک ہونا۔ الخُرْطُوم و الخُرْطُم: جلد نشہ لانے والی شراب، انگور کا پانی جو ملنے سے پہلے نکلے۔

۱۴۔ الخُرْطُون جمع خَراطِین (ح) کیچوا۔

○ خَرَطَ ـُ خَرْطًا ہ: درخت سے پتے اتارنا (لکڑی، دھات) کو خراد کرنا، کو خراد سے کوئی شکل دینا۔ ـ: مبالغہ کرنا، جھوٹ بولنا، شیخی بگھارنا، ڈینگ مارنا، خودستائی کرنا، لاف زنی کرنا۔ ـُ ہ: گوشت، گاجریں وغیرہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا، کا قیمہ کرنا، پارہ پارہ کرنا، چوکور شکل میں کاٹنا۔ خَرَّطَ ہ: گوشت گاجروں وغیرہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا چوکور شکل میں کاٹنا، کا قیمہ کرنا، کو پارہ پارہ کرنا۔ اِنْخَرَطَ: خراد سے کوئی شکل دیا جانا، خراد پر چڑھنا۔ ـ فی / فی سلك: (کسی تنظیم اتحاد وغیرہ) میں

شامل ہونا، سے الحاق کرنا، تعلق قائم کرنا۔ –فی: میں گھس جانا، کے آر پار ہو جانا، میں سرایت کرنا، جلد بازی سے یا جھٹ پٹ کود جانا، میں عاقبت نااندیشی سے حصہ لینا۔ –: محنت کرنا، مشقت کرنا، جدوجہد کرنا، سخت محنت کرنا۔ –فی البکاء پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ خَـرَطَ: پتے اتارنا، خراد کرنا، خراد کا کام، خراد کی مشین، خراد کا کارخانہ۔ خَرّاط جمع خَرّاطون خراد پر کام کرنے والا، خرادیا، ڈینگیا، لاف زن، لپاٹیا، شیخی باز، دھونس جمانے والا، قصہ گو۔ خِراطَة خرادیے کا کام، خراد کا فن خراد کی دکان۔ خَـرّاطَة لہنگا، سکرٹ۔ خَرِیطَة جمع خَرائِط و خُرُط: نقشہ، چارٹ۔ مِخْرَطَة و مَخْرَطَة جمع مَخارِط: خراد (کی مشین) خارِطَة جمع خارِطات: نقشہ، چارٹ۔ مَخْرُوط: مخروط، مخروطہ، مخروطی۔ مَخْرُوطِی: مخروطی۔

○ خُرْطُوش و خرطوشة جمع خَراطِیش کارتوس، (پنسل کا) سکہ، توشہ دان، کارتوس کی پیٹی، بہی، روزنامچہ۔ خُرْطُوم جمع خَراطِیم ناک، تھوتھنی، سونڈ (ہاتھی کی)، چمڑے یا ربڑ کی نالی۔ خراطین: زمین کے کیڑوں کی ایک قسم۔ خَراطِینی: کیڑے جیسا خُرَیطِیط: گینڈا۔

خرع ا۔ خَرَعَ - خَرْعاً کو پھاڑنا۔ خَرِعَ - خَرَعَ الشیءُ: چیز کا ٹوٹنا۔ اِنْخَرَعَتِ القناةُ: نلکی کا پھٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اِخْتَرَعَ الشیءَ: چیز کو پھاڑنا۔

۲۔ خَرِعَ - خَرَعَةً و خُرْعاً و خُرُوعاً نرم اور ڈھیلے جوڑوں والا ہونا صفت: خَرِع و خَرِیع، خَرِعَ خَرْعاً و اِنْخَرَعَ و تَخَرَّعَ الرجلُ: سست ہونا کمزور جسم کا ہونا، کمزور رائے والا ہونا۔ الخَرِیع من الرجال: کمزور آدمی۔ –والخَرُوع جمع خَرائِع و خُرُوع من النساء: نرمی و نزاکت سے جھکنے والی عورت۔ المِخْرُوع: خوش حال۔ کہا جاتا ہے۔ عَیْشٌ خِرْوَعٌ: خوش حال زندگی۔ –جمع خَرائِع و خُرُوع من النساء: نرمی و نزاکت سے جھکنے والی عورت۔ (ن): ارنڈی کا پودہ جس سے کسٹر آئل بنتی ہے۔

۳۔ خَرَّعَ الثوبَ بالخَرِیع: کپڑے کو عصفر (کسم) کے رنگ میں رنگنا۔

۴۔ اِخْتَرَعَ الشیءَ: کو پیدا کرنا ایجاد کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ اِخْتَرَعَ اللّٰہُ الکائنات: اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی یعنی عدم سے وجود میں لاتا۔

۵۔ اِخْتَرَعَ فلاناً: کے ساتھ خیانت کرنا، کو دھوکا دینا۔

۶۔ اِخْتَرَعَ الدابّةَ: کسی کے جانور کو بیگار کے طور پر چند دن کے لئے لینا اور پھر واپس کر دینا۔

۷۔ الخَراعة: بیماری۔ الخُراع اونٹنی کی دیوانگی اونٹنی کی پشت کی شکستگی۔ الخَرِیع و المَخْرُوعة من النیاق: دیوانی اونٹنی۔

○ خَرُعَ - خُرْعاً و خَراعَةً و خَرِعَ - خَرْعاً: خمیدہ ہونا، ڈھیلا، کمزور، کاہل یا سست ہونا یا ہو جانا، لنگڑانا، پلپلا ہونا یا ہو جانا، نرم ہونا یا ہو جانا، بزدل، بے ہمت یا غیر مستقل مزاج ہو جانا مان جانے والا ہونا۔ اِنْخَرَعَ: بمعنی خَرُعَ و خَرِعَ، اِخْتَرَعَ ہ کو ایجاد کرنا، اختراع کرنا، کا بندوبست کرنا، کو تخلیق کرنا، پیدا کرنا، کو وجود میں لانا۔ خَرِع و خَرِیع: نرم، ملائم، مان جانے والا، بزدل، بے ہمت، غیر مستقل مزاج، مردہ دل، طاقت سے محروم، جلد گھبرا جانے والا۔ خِرْوَع ارنڈی کا پودہ اِخْتِراع جمع اِخْتِراعات: ایجاد۔ مُخْتَرِع جمع مُخْتَرِعُون: ایجاد کرنے والا، موجد۔ مُخْتَرَع جمع مخترعات: ایجاد، ایجاد کی ہوئی چیز۔

خرف ا۔ خَرِفَ - وخَرُفَ - خَرَفاً بڑھاپے کی وجہ سے فاسد العقل ہونا صفت: خَرِف مونث خَرِفَة۔ خَرَّفَ ہُ: کو فساد عقل کی طرف منسوب کرنا۔ أَخْرَفَ ہُ: کو خراب کرنا، فاسد کرنا۔ الخُرافة: بے عقلی کی ہنسی والی بات۔ المَخْرَفَة بڑھاپے کی وجہ سے عقل کی خرابی۔

۲۔ خَرَفَ - خَرْفاً و خِرافاً و خَرافاً و مَخْرَفاً الثمرَ: پھل چننا۔ أَخْرَفَ الثمرُ پھل توڑنے کا وقت قریب آجانا۔ اِخْتَرَفَ الثمرَ پھل چننا۔ الخَراف و الخِراف: پھل چننے کا زمانہ۔ الخُرْفَة چنا ہوا میوہ۔ الخُرافة چنا ہوا پھل۔ الخَرُوفَة کھجور کا وہ درخت جس کا پھل توڑا جائے۔ الخَرِیف تازہ چنی ہوئی کھجور۔ الخَرِیفة کھجور کا درخت جس سے تر کھجوریں توڑی جائیں۔ المِخْرَف جمع مَخارِف: چھوٹی ٹوکری جس میں عمدہ تازہ کھجوریں ڈالی جائیں۔ المَخْرَف جمع مَخارِف کھجور کے درخت کی دو قطاروں کے درمیان کا راستہ جن میں سے کسی ایک سے کھجوریں چنی جائیں۔

۳۔ خُـرِفَتِ الارضُ: زمین پر خریف کی بارش برسنا۔ صفت: مَخْرُوفَة۔ –تِ البهائمُ چوپایوں پر موسم خریف آجانا، چوپایوں کے چرنے کے لائق سبزہ اگ آنا۔ خارَفَ مُخارَفَةً و خِرافاً ہُ سے موسم خریف میں معاملہ کرنا۔ أَخْرَفَتِ الشاةُ: بکری کا موسم خریف میں بچہ جننا۔ –الرجلُ موسم خریف میں داخل ہونا۔ اِخْتَرَفَ فی مکان: کسی جگہ موسم خریف میں اقامت کرنا۔ الخَرِیف موسم گرما اور سرما کے درمیان کا موسم۔ اس موسم کی بارش۔ نسبت کے لئے: خَرِیفِیّ و خَرَفِیّ و خَرْفِیّ۔

۴۔ الخُرافجمع خُرافات بیہودہ بات الخَرُوف جمع خِراف و أَخْرِفَة و خِرفان (ح): بکری کا بچہ۔ الخَرُوفَة (ح) بکری کا مادہ بچہ۔ المُخارِف من الرجال: محروم آدمی۔

۵۔ خَرْفَشَ الشیءَ: کو ملانا، خلط ملط کرنا، گڈمڈ کرنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: خَرْفَشَ فی کلامه: اس نے تہذیب سے گری ہوئی یا بے معنی بات کی۔

○ خَرِفَ - خَرَفاً۔ سٹھیانا، دماغ میں خلل آجانا مخبوط الحواس ہونا، پیرانہ اور کم ہمت ہونا، احمقانہ باتیں کرنا۔ خَرَف کم ہمتی، ضعف عقل، پیری، کہن سالی، طفل مزاجی (بوڑھے شخص کی)۔ خَرِف و خَرْفان: کم ہمت، سترا بہترا، جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو۔ سٹھیا ہوا، طفل مزاج، بچوں جیسا۔ خَـرِیف پت جھڑ، خزاں۔ خَرِیفِی خزان، خزاں کے متعلق خُرُوف جمع خِـراف و أَخْـرِفَة و خِـرفان: بھیڑیا مینڈھے کا بچہ، برہ، جانور کا ایک بچہ۔ خُرافَة جمع خُرافات: ضعیف الاعتقادی، اوہام پرستی توہم، بے سر و پا بات، کہانی، من گھڑت قصہ، جھوٹی بات۔ خُرافِی: افسانوی، گھڑا ہوا، غیر حقیقی، فرضی، روایتی، من گھڑت۔ مَخْرَفَة بچوں کی سی باتیں، احمقانہ باتیں، بکواس، بیہودہ باتیں۔ تَخْرِیف بیوقوفی، حماقت، احمقانہ باتیں، وسوسہ، توہم، بکواس، بیہودہ باتیں، مُخَرِّف بچوں کا سا، احمقانہ بیوقوف، احمق۔ جمع مُخَرِّفون: بچوں کی طرح باتیں کرنے والا، بک بک کرنے والا، گپی، باتونی، بکی مقرر، ڈینگیا، ڈھونگیا۔

○ خُرْفُوشَة جمع خرافیش: قیمت کا کارڈ، وہ پتہ جو چھانٹا جائے۔

خرق ا۔ خَرَقَ - خَرْقاً الثوبَ کپڑے کو پھاڑنا۔ –البناءَ و فی البناء: عمارت میں روشندان رکھنا۔ فلاناً بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ خَرَّقَ ہُ کو پھاڑنا۔ تَخَرَّقَ و اِنْخَرَقَ و اِخْرَوْرَقَ: پھٹنا۔ الخَرْق جمع خُرُوق سوراخ، شگاف۔ الخِرْقَة جمع خِرَق: کپڑے کا چیتھڑا، دھجی۔ المَخْرَق جمع مَخارِق (ع ا): بدن کے منافذ کو بھی کہتے ہیں، جیسے منہ، ناک وغیرہ۔

٢۔خَرَقَ ـُ خَرْقاً الكذبَ: جھوٹ بات بنانا۔۔۔الرجلَ: جھوٹ بولنا۔خَرَّقَ الرجلُ: بہت جھوٹ بولنا۔تَخَرَّقَ الكذبَ: جھوٹ گھڑنا۔اختَرَقَ الكذبَ: جھوٹ گھڑنا۔المَخْرَقة: جھوٹ گھڑت۔

٣۔خَرَقَ ـُ خَرْقاً الارضَ: زمین میں سے گزرنا، عبور کرنا، زمین میں سفر کرنا۔۔المفازةَ: ریگستان عبور کرنا۔اختَرَقَ الارضَ: زمین میں ایک طرف کو بغیر راستہ کے چلنا۔۔القومَ: لوگوں کے درمیان میں چلنا۔الخرق بالمرّ (ر): زمین کی گہری جتائی ایک لمبے دو پھلوں والے آلہ سے جسے مرالخرق کہا جاتا ہے۔ الخريق جمع خُرُق: پانی کے بہنے کی جگہ۔ المُختَرَق: گزرگاہ کہا جاتا ہے مکانٌ خاوی المُختَرَق: وہ جگہ جہاں کوئی چلنے والا نہ ہو، آمد و رفت نہ ہو۔

٤۔خرَقَ ـُ خرْقاً العادةَ: عادت و رسم کو توڑنا۔الخارق جمع خوارق: مقتضائے عادت کے خلاف کام، معجزہ۔

٥۔خَرِقَ ـَ خَرْقَات الريحُ: ہوا کا تیز چلنا۔تخرّق و انْخرقت الريحُ: ہوا کا تیز چلنا۔الخرْق جمع خُرُوق: کشادہ و فراخ زمین جس میں ہوائیں تیز چلیں۔ بیابان، ریگستان، ویران غیر آباد لق و دق، اجاڑ، بنجر زمین۔الخَرِيق: ہلکی ہوا۔جمع خُرُق: وادی کا کشادہ قصبہ۔الخَرُوق: ٹھنڈی تیز ہوا۔المَخْرق جمع مَخَارِق: بے آب و گیاہ بیابان۔الخَرْقاء: تیز ہوا، تند ہوا، کشادہ و فراخ زمین جس میں ہوائیں چلتی ہوں۔المِنْخَرِق: تیز رفتار (یہ ریح خریق بمعنی تیز و تند ہوا سے ماخوذ ہے) مُختَرَقُ الرياح: ہواؤں کے چلنے کی جگہ۔

٦۔خَرَقَ ـُ خَرْقًا الرجلُ: بچوں کے کوڑے سے کھیلنے کا کھیل کھیلنا۔المَخَارِيق: دھجیوں سے بنا ہوا وہ کوڑا جس سے بچے کھیلتے ہیں۔

٧۔خَرَقَ ـُ خُرُوقاً في البيت: گھر میں لگاتار قیام رکھنا۔خَرِقَ ـَ خَرَقاً: خوف یا شرم کی وجہ سے دہشت زدہ ہونا۔صفت خَرِق۔۔الغزالُ او الطائر: ہرنی یا پرندہ کا دہشت زدہ ہو کر اٹھنے یا اڑنے سے عاجز ہونا۔۔في البيت: گھر میں لگاتار قیام رکھنا۔اَخْرَقَ ہٗ: کو دہشت زدہ کرنا۔نومةُ الخَرِق: چاشت کے وقت کی نیند۔

٨۔خَرِقَ ـَ و خَرُقَ ـُ خَرَاقَةً: بے وقوف ہونا۔ صفت اَخْرَق: بے ہنر ہونا، اپنا کام اچھے طریقہ سے نہ کرنا۔صفت اَخْرَق۔ الخُرْق و الخَرَق والخُرْقَة: حماقت، نامناسب استعمال، جہالت، رائے کی کمزوری۔الخَرْقاء: اخرق کا مونث۔

٩۔تَخَرَّقَ في الكَرَم: وسیع پیمانہ پر فیاضی کرنا۔الخِرْق جمع اَخْراق و خُرّاق و خُرُوق و الخَرِيق (مبالغہ کے طور پر): فیاض، سخی۔المِخْرَاق جمع مَخَارِيق: سخی۔

١٠۔الخُرْق و الخَرَق و الخُرْقَة: سخی۔المِخْرَاق جمع مَخَارِيق: خوبصورت جسم والا، تجربہ کار کہا جاتا ہے هو مِخْرَاقُ حروب: اس نے کئی جنگیں لڑی ہیں، جن میں وہ پھرتی سے کام لیتا ہے۔

○ خَرَق ـُ خَرْقاً ہ: کو پھاڑنا، چیرنا، میں سوراخ کرنا کو برمانا، چھیدنا، میں گھس جانا، سے گزرنا، (کسی ملک) میں سفر کرنا، کو عبور کرنا، سے گزرنا، کی خلاف ورزی کرنا، سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، میں خلل ڈالنا، کو بگاڑنا، خراب کرنا، پر مداخلت بے جا کرنا، عہد، اقرار وغیرہ۔توڑنا۔۔: غیر معمولی ہونا، بے مثل ہونا، ان سنا ہونا، ان دیکھا ہونا نرالا، انوکھا، یا عجیب و غریب ہونا۔خَرَقَ العادةَ: معمول سے زیادہ ہونا بڑھنا۔اَخْرَقَ: گھاٹ میں بیٹھنا، گھات میں ہونا۔۔تَخَرَّقَ و اِنْخَرَقَ: پھٹنا، چرنا، ٹوٹنا، چھدنا۔ اِخْتَرَقَ ہ: کو چیرنا، سے گزرنا، میں گھسنا میں سفر کرنا، کو عبور کرنا، (حد) سے تجاوز کرنا، سے زیادہ ہونا۔اِخْتَرَقَ مسامعَهُ: کے کانوں میں چیخنا۔ خَرْق: پھاڑنا، چیرنا، سوراخ کرنا، چیر پھاڑ، نفوذ، رسائی، سوراخ کرنا، چیر پھاڑ، نفوذ، رسائی، گھسنا، شکستگی، انتشار، راستہ کی رکاوٹ دور کرنا، اہم پیش رفت، عرضاً سفر، عبور کرنا، خلاف ورزی، جمع خُرُوق: سوراخ، شگاف، موگھا، روشن دان، روزن، راستہ۔ خرق الامن العام: امن عامہ میں خلل اندازی۔ خرقُ العادات: عام رواج کی مخالفت کا گناہ معاشرتی روایات کی خلاف ورزی۔اِتَّسَعَ الخَرقُ على الراقع: شگاف پر نہیں کیا جاسکتا۔خُرْق و خُرْقَة: حماقت، اناڑی پن، پھوہڑ پن، بے سلیقگی۔خُرْق في الرأي: کند ذہنی بے خبری، بے وقوفی، ناسمجھی، نادانی، شوریدہ سری، دیوانگی، سودا، خبط، جنون، پاگل پن۔من الخرق في الرأي ان: یہ بات بڑی غیر دانشمندانہ ہوگی کہ۔خِرْقَة جمع خِرَق: دھجی، چیتھڑا، ٹکڑا، پرزہ (کاغذ کا) ٹکڑا، پالش کا کپڑا، ربڑ کا ٹکڑا۔ اَخْرَق مونث خَرْقاء جمع خُرْق: بے ڈول، بھونڈا، بے سلیقہ، پھوہڑ، اناڑی، بھدا، بے ڈھنگا، بے ہنگم، ناکارہ، ناموزوں، بے خبر، مدہوش، مخبوط کند ذہن، کودن، بے وقوف، بے قاعدہ، بے ڈھب، خلاف ضابطہ، خلاف قاعدہ، خلاف معمول غیر قانونی، ناجائز، ناروا، خلاف قانون۔مَخْرَقَة: دھوکا، فریب، دغا، شعبدہ بازی، کرتب، ہاتھ کی صفائی، بازی گری، مکاری، نٹ بازی، فسوں گری، چھومنتر، جنتر منتر۔ مَخَارِق: ایک قسم کی پیسٹری۔اِختراق: گھسنا، چھیدنا، سوراخ کرنا، ٹوٹنا، توڑنا، عرضاً سفر کرنا، عبور کرنا، عبور، گزر۔خارق اور خارق للعادة یا خارق العادة: معمول سے متجاوز، غیر معمولی، خلاف قاعدہ، خلاف معمول، خلاف دستور انوکھا، نرالا، عجیب و غریب، ان دیکھا، ان سنا، بے نظیر، جمع خوارق: معجزات۔خارق الطبيعة: خارق عادت، مافوق الفطرت۔خوارق المُصَادَفَات: معجزانہ اتفاقی مطابقات۔مُخْتَرَق: راہ، راستہ، گزرگاہ۔

خرم: اخَرَمَ ـِ خَرْماً ہٗ: میں سوراخ کرنا، شگاف ڈالنا، ناک کی درمیانی ہڈی کو چھیدنا، کہا جاتا ہے۔ ماخَرَمْتُ منه شيئاً: میں نے اس میں سے کچھ کم نہیں کیا اور نہ کاٹا۔الخرزةَ: موتی توڑنا۔۔الابرةَ: سوئی کا ناکا توڑنا۔خَرِمَ ـَ خَرَماً: کے ناک کی ہڈی کا چھدنا۔صفت اَخْرَم۔ خَرَّمَ الخَرَزَ: موتیوں میں سوراخ کرنا۔تَخَرَّمَ: ٹوٹنا۔اِنْخَرَمَ انْفُهُ: کا ناک چھد جانا، ٹوٹنا۔الخَرْم جمع خُرُوم: پہاڑ کی نکلی ہوئی نوک۔الخَرَمَة: ناک میں چھیدنے کی جگہ۔ الأَخْرَم: روم کے ایک بادشاہ کا لقب، مونڈھے کے نچلے حصہ کا کنارہ۔الأَخْرَمان: اوپر کے جبڑے کے ہر دو طرف دو سوراخ دار ہڈیاں۔الخَرْماء: چھدا ہوا کان۔من العناز: عرض میں پھٹے ہوئے کان والی بکری۔المَخْرِم جمع مَخَارِم: پہاڑ کی نوک کا آخری سرا۔المَخَارِم: پہاڑ میں راستے اور ان کے منہ۔مَخَارِمُ الليل: رات کی ابتدائی گھڑیاں۔ الخُورَمَة (ع ا): انسان کی ناک کا بانسہ یا دونوں نتھنوں کا درمیانی حصہ۔

٢۔خَرَمَ ـِ خَرْماً عن الطريق: راستہ سے ہٹنا۔

٣۔خَرَمَ ـِ خَرْماً تْهُ الخوارم: کسی کا مر جانا۔تَخَرَّمَ و اِخْتَرَمَ ہ: کو ہلاک کرنا، کی بیخ کنی کرنا۔۔ہُ الموتُ: کو موت کا آلینا۔اِنْخَرَمَ القَرْنُ: صدی کا ختم ہو جانا، گزر جانا۔اُخْتُرِمَ عنا: مرنا۔

٤۔خَرِمَ ـُ خَرَامَةً: شوخ و بے باک ہونا۔صفت خَارِم و خَرِيم۔ اِخْتَرَمَهُ المرضُ: کو بیماری کا لاغر کرنا، دبلا پتلا کرنا۔الخُرمان: جھوٹ۔

٥۔خَرْمَشَ الكتابَ: کتاب کو خراب کرنا، بگاڑنا۔

۶۔ خَزَنَفَهُ بالسیف: کوتلوار سے مارنا۔

۷۔ الخِرنَق جمع خَرَانِق (ح): جوان خرگوش خرگوش کا بچہ۔ الخَوَرنَق: بادشاہ کے کھانے پینے کی مجلس (ن) ایک قسم کا پودہ۔

○ خَرَمَ - خَرمًا و خَرَمَهُ: کو چھیدنا، برمانا، میں سوراخ کرنا، کو چیرنا، میں چھید ڈالنا۔ اِنخَرَمَ: چھدنا، پھٹنا، پھٹکا جانا، پارہ پارہ ہونا، پاگل ہونا، دیوانہ ہونا، غیر منظم ہونا، غیر مستعد ہونا، ختم ہونا، کی مدت ختم ہونا، ناکام ہوجانا، دور ہوجانا۔ اِختَرَمَهُ: کو تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا، موت کا کسی کو لے جانا، مرجانا۔ — الصفوف: صفیں توڑنا، — ہ: میں سے گزرنا۔ خَرم جمع خُرُوم: شگاف، دراڑ، خلا، خالی جگہ۔ خُرمٌ: سوراخ، خُرمُ الابرة: سوئی کا ناکہ۔ خَرَّامَة: برما، پھل (کاٹنے کا اوزار) چھوٹا برما، پیچ، سوراخ کرنے کا اوزار، چھیدنے والا۔ اَخرَم: سوراخ دار ناک کے پردے والا۔ تَخرِیم: چھیدنا، بورنگ کرنا، ڈرل کرنا، سوراخ، چھید، پنچ کرنا، لیس فیتہ، جھالر، کلابتون (کاری) تَخرِیمة: لیس، فیتہ، جھالر، کلابتوں (کا کام)، دھات کے تاروں کا باریک کام، طلاکاری اِنخِرَام: خلل، گڑبڑ، ابتری، بدنظمی، پاگل پن، دیوانگی، پراگندگی، بے ترتیبی۔ اِنخِرَامٌ فی التوازن: توازن کا خلل۔ مَخرُوم: ناقص، نامکمل۔ مُخَرَّم: سوراغ کیا ہوا، طلاکاری کیا ہوا۔

○ خُرمَاشَة جمع خُرمَاشات: کھانچے دار سراون، سہاگہ، مہزا، ہنگا۔

○ خُرنُوب: ٹڈی، ایک قسم کا درخت یا اس کے بیج جو سغوف کی شکل میں چاکلیٹ کی جگہ استعمال کئے جاتے ہیں۔

○ خِرنِق جمع خَرَانِق: جوان خرگوش، خرگوش کا بچہ۔

○ خِروَع: ارنڈی کا پودا جس سے کسٹرول (castoroil) بنایا جاتا ہے۔

خزّ: ۱۔ خَزَّ - خَزًّا الحائِطَ: دیوار پر کانٹے لگانا تا کہ اس پر کوئی چڑھ نہ سکے۔

۲۔ خَزَّ یَخُزُّ التمرُ: کھجور کا قدرے ترش ہونا صفت: خازٌّ۔

۳۔ خَزَّ - خَزًّا و اِختَزَّهُ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔

۴۔ خَزَّ - خَزًّا و اِختَزَّا لرجلَ ببصره: کو اپنی نگاہ میں رکھنا۔

۵۔ الخَزّ جمع خُزُوز: ریشم، ریشم اور اون یا صرف ریشم کا بنا ہوا کپڑا۔ — (عند العامة (عام لوگوں کے نزدیک) کائی۔ الخُزَز جمع خِزّان و اَخِزَّة (ح) نرخرگوش۔ الخِزِیز: بہت ہی خشک عوسج (ایک کانٹا) الخَزَّاز: ریشم کا سوداگر۔ المَخَزَّة: خرگوشوں کی جگہ۔

○ خَزَّ - خَزَّاهُ: پر بہت اثر کرنا، کو مبہوت کرنا پر سکتہ طاری کرنا، — ہ ب: کو کسی چیز سے زخمی کرنا، میں کوئی چیز گھونپنا۔ اِختَزَّهُ ب: کو سے بہت متاثر کرنا، کو سے مبہوت کرنا۔ خَزّ جمع خُزُوز: ریشم ریشمی کپڑا۔

خزب: ۱۔ خَزِبَ - خَزَبًا و تَخَزَّبَ الجلدُ: کھال کا بغیر درد کے سوج جانا صفت: خَزِب: — ت الشاة: بکری کے تھنوں کا سوجنا صفت: خَزِبَة و خَزبَاء، الخَیزَب و الخَیزَبان: نرم گوشت، خَیزَبَة و خَیزَبانة: نرم گوشت کا ٹکڑا۔

۲۔ الخَزبَاز و الخَازِباز (ح): باغ کی مکھیاں، باغ کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔

خزر: ۱۔ خَزَرَ - خَزرًا: کنکھیوں سے دیکھنا، چالاک ہونا صفت: خَازِر۔ — تْ عینُهُ: تنگ آنکھوں والا ہونا۔ صفت: اَخزَر مونث خَزرَاء جمع خُزر۔ خَزَّرَ الشیءَ: کو تنگ کرنا۔ تَخَازَرَ: تیز نظر سے دیکھنے کے لئے پپوٹے کو سکیڑنا۔ الخَزَر: آنکھ کی تنگی، چھوٹی آنکھوں والی ایک قوم۔ بحر الخَزَر: بحر قزوین۔ (the Caspian sea)۔ الخُزرَة: سخت بھینگا پن جس میں آنکھ کا ڈھیلا کنپٹی والے گوشہ کی جانب الٹ جاتا ہے۔

۲۔ خَزَرَ - خَزرًا الرجلُ: بھاگ جانا۔

۳۔ الخَزرَة و الخُزرَة: پیٹھ کا درد، الخَیزُران (واحد خَیزُرَانَة) جمع خَیازِر (ن): بانس، نرکل ہر نرم لکڑی، نیزے۔ الخَیزُرَانة جمع خیزرانات جہاز یا کشتی کا سُکان، دنبالہ۔ الخَیزُور (ن): سرکل ہر نرم لکڑی، نیزے۔ الخَیزُرَانة: جمع خیزرانات جہاز یا کشتی کا سکان، دنبالہ۔ الخَیزُور (ن): نرکل۔ الخَوزَرَی و الخَیزَرَی: ناز و انداز کی چال۔

۴۔ الخَزرَح: جنوبی ہوا۔

۵۔ خَزرَفَ فی مشیته: ہاتھوں کو اوپر نیچے ہلاتے ہوئے چلنا۔

○ خَزَرَ - خَزرًاهُ: کو ترچھی نظر سے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، شک وشبہ کی نظر سے دیکھنا۔ خَیزُران جمع خَیازِر: بید، نرسل، بانس۔ خَیزُرانة: بید، چھڑی۔

خزع: ۱۔ خَزَعَ - خَزعًا الشیءَ: کو کو کاٹنا۔ — عن القوم: لوگوں سے پیچھے رہ جانا۔ — منه شیئًا: سے کوئی چیز لینا۔ خَزَّعَ الشیءَ: کو کاٹنا۔ خَزَّعَ الشیءَ بینهم: کو کے درمیان تقسیم کر دینا، بانٹ دینا۔ — هُ ظَلَعٌ فی رجلِهِ: کو پاؤں میں لنگراہٹ کا چلنے سے روک دینا۔ تَخَزَّعَ الشیءَ: کو کاٹنا۔ — عن القوم: لوگوں سے پیچھے رہ جانا۔ تَخَزَّعوا الشیءَ: چیز کو ٹکڑوں کی شکل میں آپس میں بانٹ لینا۔ اِنخَزَعَ الحبلُ: رسی کا بیچ سے کٹ جانا۔ اِختَزَعَهُ: کو لینا۔ — ہ عن القوم: کو قوم سے جدا کر لینا۔ الخَزعَة: ایک پاؤں کی لنگراہٹ۔ الخِزعة: گوشت کا ٹکڑا۔ الخَزُوع: لوگوں کا مال اڑانے والا۔ الخُزَاع: موت۔ الخُزَاعَة: کسی چیز کا ٹکڑا۔ الخَوزَعَة: ریگ کے بڑے تودے سے جدا ہونے والا ریگ کا تودہ۔

۲۔ اِنخَزَعَ الرجلُ: آدمی کا بڑھاپے اور کمزوری کے باعث جھکنا۔ الخَوزَع: بڑھیا۔

۳۔ الخَزَعبَل و الخُزَعبِل و الخُزَعبِیل: خوش طبعی کی جھوٹی باتیں۔ الخُزَعبَلة جمع خُزَعبُلات: خوش طبعی، مذاق۔

۴۔ خَزعَلَ فی مشیه: چلنے میں لنگڑانا۔ — الماشی: چلنے والا کا لنگڑے کی طرح پاؤں کو جھاڑنا۔ الخَزعَل (ح): بجو۔ الخُزعَالة: مذاق، کھیل کود۔

○ خَزَعَ - خَزعًاهُ: کو کاٹنا، الگ کرنا، جدا کرنا قطع کر دینا۔

خُزَعبَل: بیکار باتیں، بیہودہ گفتگو۔ خُزَعبَلَة جمع خُزَعبُلات: بیکار باتیں، بیہودہ، گفتگو۔ مذاق، ہنسی، چٹکلا، لطیفہ، ہنسی ہنسی میں دیا ہوا جھانسا، گپ، من گھڑت قصہ، لغویات، بے نبیاد بات۔

خزف: خَزَفَ - خَزفًا فی مشیه: چلنے میں ہاتھ ہلانا۔ — الثوبَ: کپڑا اپھاڑنا۔ — الشیءَ: کو چیرنا۔ الخَزَف (واحد خَزَفَة): مٹی کے پکے ہوئے برتن۔ الخَزَّاف و الخَزَفِیّ: مٹی کے برتن بیچنے والا مٹی کے برتن بنانے والا۔

○ خَزَف: مٹی کے برتن، چینی کے برتن، فن کوزہ گری، خزفیات۔ خَزَفِی: چینی مٹی کا بنا ہوا۔ خزّاف: چینی کے برتنوں کا سوداگر، کمہار۔ خِزَافة: کمہار کا پیشہ، ظروف سازی۔

خزق: ۱۔ خَزَقَ - خَزقًا هُ بالسهم: کو تیر مارنا۔ — ہ بالرمح: کو نیزہ آہستہ مارنا۔ — الشیءَ فی الارض: کو زمین میں گاڑنا۔ تَخَزَّقَ و اِنخَزَقَ: پھٹ جانا، چھد جانا۔ اِختَرَقَ السیفُ: تلوار کا میان سے نکلنا۔ الخَازِق (فا): نیزہ کا پھل۔ المِخزَقَة: برچھی۔ الخَازُوق جمع خَوَازِیق: ایک نوکدار لمبا ڈنڈا جس کو مجرم کے مقعد میں داخل کرنے پر اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ مولدین

نے اس سے فعل خوزق بنایا ہے۔

۲۔ خَزَق ـِ خَزْقاً الطائر: پرندہ کا بیٹ کرنا۔

۳۔ خَزَق الثوبَ: کپڑے کو پھاڑنا۔

○ خَزَقَ ـِ خَزْقاً ہ: کو چھیدنا، میں سوراخ کرنا کو چبھونا، میں گھسنا، کو گھونپنا، گھسیڑنا، آر پار کرنا۔ — ہ فی الارض: کو زمین میں ٹھونکنا، گاڑنا۔ —ہ و خزّق ہ: کو چیرنا، پھاڑنا، چاک کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ادھیڑنا۔ تَخَزَّقَ و اِنْخَزَقَ: چبھنا، چھدنا، گھپنا، گھسنا آر پار ہونا، چرنا، پھٹنا، چاق ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ادھڑنا۔ خَـزُق: درز، چاک شگاف، سوراخ، چیر (کپڑے میں) خازوق جمع خَوازیق: کھمبا، نوکدار کھمبا یا بلی، لاٹھی، لٹھ۔ گندہ فریب، چال یا دھوکا۔ ہٰذا فازوق: یہ مشکل حسن اتفاق ہے۔

○ خَـوْزَقَ ہ: کے جسم میں میخ ٹھونک کر ہلاک کرنا، کو زچ کرنا، کو مشکل میں ڈالنا۔

خزل: ا۔ خَزِلَ ـَ خَزَلاً: کی پیٹھ ٹوٹنا صفت: اَخْزَل و مَخْزُول۔ الخُزَالة پیٹھ کی شکستگی۔

۲۔ خَـزَلَ ـِ خَـزْلاً الشیء: کو کاٹنا تَـخَزَّل: کٹنا۔ اِنْخَزَلَ فی کلامه: بات کرتے ہوئے رک جانا۔ — من المکان: کسی جگہ سے علیحدہ ہونا۔ اِخْتَـزَلَ الشیءَ: کو حذف کرنا، کاٹ دینا۔ — ہ عَن قومه: کو قوم سے علیحدہ کرنا۔ — برأيه: اپنی علیحدہ رائے رکھنا۔ — الودیعةَ: امانت میں خیانت کرنا۔ الاِخْتِزَال (ع ح): تلخیص، اختصار، ایجاز، مختصر نویسی۔ (short hand) و (Steno graphy) اختزال کسر یا اختصاره (ع ج): مساوی کسر میں تبدیل کرنا۔ جیسے 20/60 و 15/25 کو علی الترتیب 1/3 اور 3/5 میں تحویل کرنا 3/4 و 11/13 کی کسریں نا قابل اختزال ہیں۔

۳۔ خَزَلَ ـِ خَزْلاً ہ عن حاجته: کو اس کی حاجت سے روکنا۔ انخزل عن الجواب: جواب سے لاپرواہی کرنا۔ الخُزَلة: مراد سے روکنے والا۔

۴۔ تَخَزَّل: بوجھل چلنا۔ — السحابُ: ایسا لگنا جیسے بادل واپس جاتے ہوئے سستی کر رہا ہو۔ اِنْـخَـزَلَ: گرانباری سے چلنا۔ الخَوزلی و الخَیْزلی: ست چال۔

۵۔ اِخْتَزَلَ ہ: پر عیب لگانا۔

○ خَـزَلَ ہ: کو کاٹ ڈالنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ ہ عن: کو سے روکنا۔ اِخْتَـــزَلَ ہ: کو کاٹ ڈالنا، مختصر کرنا، کو اچانک ختم کر دینا، کی تلخیص کرنا، کا اختصار کرنا: — ب: کسی رائے میں تنہا ہونا۔ مُخْتَـزِل: مختصر نویس، شیٹو

گرافر۔

خزم: ا۔ خَزَمَ ـِ خَزْمًا اللالی: موتی پرونا۔ — خَزَمَ البعیرَ: اونٹ کی ناک میں چھلا ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: خَزَمَ ان (انف) فلان و جعل فی انفه الخزامة: اس نے اس کی ناک میں ناتھ ڈال دی یعنی اسے عاجز بنا دیا تابع کر لیا۔ تَخَزَّمَ الشوكُ فی رجله: کے پاؤں میں کانٹے چبھ جانا۔ الخَزَم (ن): ایک درخت جس کی چھال سے رسیاں بٹتے ہیں۔ الخِزام: ناک کا چھلا۔ الخِزامة: ناک کا چھلا۔ خزامةُ النعل: جوتے کا تسمہ۔ المَخْزُوم من الشُرُك: کٹا ہوا تسمہ۔

۲۔ خَازَمَ مُخَازَمَةً ہ الطریقَ: دو مختلف راستوں پر چل کر ایک جگہ آپس میں آملنا۔ تَخَازَمَ الجیشان: دو لشکروں کا ایک دوسرے کے مقابل آنا۔ المَخْزَم جمع مَخَازِم: پہاڑی راستہ۔

۳۔ الاخزَم (ح): نر سانپ۔ الخُزَامی (ن): ایک پودا جس کے پھول متعدد رنگوں کے ہوتے ہیں۔ ہالینڈ اس کی کاشت میں مشہور ہے۔ — الخَزَام (ن): ایک پودا جو عطروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

○ خَزَمَ ـِ خَزْمًا ہ (موتی) پرونا۔ خَزَمَ انفه: اونٹ کی ناک میں چھلا ڈالنا، کسی کو اپنی خواہش کا تابع فرمان بنانا۔ خُـزَامی: ایک قسم کی خوشبودار جھاڑی، لیونڈر کے پھول اور شاخیں جو خوشبو کے لئے کپڑوں میں رکھے جاتے ہیں۔

خزن: ا۔ خَزَنَ ـُ خَزْنًا و اِخْتَزَنَ المالَ: مال ذخیرہ کرنا، جمع کرنا۔ — السِرَّ: بھید چھپانا۔ — اللسانَ: زبان کو بولنے سے روکنا۔ اَخْـزَنَ: احتیاج کے بعد خوشحال اور مالدار ہونا۔ اِسْتَخْزَنَ المالَ: مال جمع کرنا، ذخیرہ کرنا۔ — ہ المالَ: کو مال جمع کرنے کے لئے کہنا۔ الخازِن (فا) جمع خَزَنَة و خُزّان: ذخیرہ کرنے والا، زبان۔ خازِنُ الامیر: خزانچی، حاکم کے مال کی حفاظت کرنے اور اسے خرچ کرنے کا ذمہ دار۔ الخَزْنَة: ذخیرہ کیا ہوا مال۔ خزانہ۔ الخَزّان: زبان، پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ الخَزِینَة جمع خَزَائِن: خزانہ، جمع کیا ہوا مال۔ — و الخِزَانة جمع خَزَائِن: مال ذخیرہ کرنے کی جگہ، خزانہ۔ الخِزَانة: خزانچی کا پیشہ۔ المَخْزَن جمع مَخَازِن: ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ مَخْزَنُ البضاعة: سٹور، گودام۔

۲۔ خَزَنَ ـُ خَزْنًا و خُزُونًا و خَزِنَ ـَ خَزَنًا و خَزُنَ ـُ خَزَانَةً اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت: خَزِین۔

۳۔ اِخْتَـزَنَ الطریقَ: قریب ترین راستہ اختیار کرنا مَخَازِنُ الطریق: منزل مقصود پر پہنچنے کے قریب ترین راستے۔

○ خَزَنَ ـُ خَزْنًا: سٹور کرنا، شاک کرنا، اٹھا رکھنا، بچا رکھنا، سینت کر رکھنا، ذخیرہ کرنا، انبار لگانا، جمع کرنا۔ — ہ: بھید کو چھپانا، بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خَـزَّنَ و اِخْتَـزَنَ ہ: کو سٹور کرنا، کا شاک کرنا کو اٹھا رکھنا، بچا رکھنا، سینت کر رکھنا، کو گودام میں رکھنا کو جمع کرنا، کا انبار لگانا، کے گرد یا پر بند باندھنا یا پشتہ بنانا، کو بند باندھ کر روکنا، کو حفاظت میں رکھنا، سنبھال کر رکھنا۔ خَزْن: سٹور کرنا، ڈھیر، انبار، ذخیرہ اندوزی کرنا، سینت سینت کر رکھنا، جمع کرنا، ڈھیر لگانا، ذخیرہ کرنا، گودام میں رکھنا خَزْنَة: خزانہ، تجوری، سیف، تہ خانہ، کپڑوں کی الماری، جامہ دان، وارڈ روب، لاکر (locker) برتنوں کی الماری، نعمت خانہ۔ خِزَانَة جمع خـزانات و خَـزَائِن: خزانہ، تہ خانہ، تجوری، خزانہ عامرہ، مالی وسائل جمع کرنے اور ادا کرنے کے لئے دفتر، لاکر، کپڑوں کی الماری، برتنوں کی الماری، نعمت خانہ، لائبریری۔ خزانة الدولة و خزانة عامة: عوامی خزانہ، خزانہ عامرہ، محکمہ مالیات خزانة الثلج: آئس بکس، ریفریجریٹر۔ خـزانة الكتب: بک کیس، لائبریری۔ خزانة خصوصية: نجی لائبریری: خزانة الملابس: وارڈ روب، کپڑوں کی الماری، لاکر، خَزِینَة جمع خَزَائِن: خزانہ، خزانہ، عامرہ، مالیاتی محکمہ، مالیاتی وسائل جمع کرانے اور ادا کرنے کا دفتر خزانچی کا دفتر، تہ خانہ، سیف کیش بکس، روپیہ رکھنے کی غلک۔ الخزینة الخاصة (سابقہ نجی شاہی دولت۔ خزینة الدولة: خزانہ، عامرہ۔ خزینة راصدة و خـزینة نقود راصدة: کیش رجسٹر، روکڑ بہی۔ خَزّان جمع خَزّانات و خزازین: ڈیم، خزانہ آب، تالاب، نشیبی زمین گندی پانی کی حوضی، قدرتی تالاب، تیل کی ٹنکی جمع خَـزّانون: گودام والا، بڑی دوکان والا مَخْزَن جمع مَخَازِن: سٹور روم، گودام، مال خانہ، شاک رکھنے کا کمرہ، ڈپو، سٹور، دوکان، ڈیپارٹمنٹل سٹور۔ المخزن: مراکش کی حکومت کا محکمہ مالیات۔ مخزن ادویة: دواؤں کی دوکان۔ مخزن الاصدار: مال اتارنے چڑھانے کا کمرہ۔ مخزن العَفْش (موٹر کار وغیرہ کا) ڈگی۔ مَخْزَنی: حکومت یا انتظامیہ کے ماتحت، حکومت کا، حکومتی۔ املاك مخزنية: حکومت کی زمین مَخَازِنی جمع مخازنية: جنگی مسلح سپاہی۔ مَخَازِنُ الطریق: قریب ترین راستہ، سب سے چھوٹا راستہ۔ مَخْزَنجی: مال

گودام والا، دوکان والا خـزنـدار: خزانچی، معتمد مال، خازن تخزین: سٹور کرنا، ذخیرہ کرنا، گودام میں رکھنا، مستقبل کے لئے جمع رکھنا، حفاظت کے لئے رکھنا، جمع کرنا، ڈھیر، انبار، بند باندھنا، پشتہ بنانا، بند باندھ کر روکنا خازن جمع خزنۃ و خزّان: خزانچی، معتمد مال، خازن، مَخزون: سٹور کیا ہوا، گودام میں رکھا ہوا، جمع کیا ہوا، جمع کرایا ہوا تحویل میں دیا ہوا۔ (جمع مَخزونات) سٹاک، سامان، مال، رسد، ذخیرہ، ضروری سامان (برائے تجارت)

خزا: خزا ـُ خزوًا ہٗ: پر سیاست کرنا، حکومت کرنا، پر غالب آنا، کو خواہش نفسانی سے روکنا، سے دشمنی کرنا۔ الدابۃَ: جانور کو سدھانا۔

خزی: ا۔ خزِیَ ـَ خزیًا و خزیً: ذلیل ہونا، خوار ہونا مصیبت میں پڑنا، بدنام ہونا۔ خزیَ ـِ خزیًا ہٗ: کو شرمندگی میں ڈالنا، سے زیادہ رسوا ہونا، کو رسوا کرنا۔ خازیٰ مُخازاۃً ہٗ: کو شرمندگی میں ڈالنا۔ اخزیٰ اِخزاءً ہٗ: کو شرمندگی میں ڈالنا، کو ذلیل کرنا، کی اہانت کرنا جب کسی سے کوئی اچھا کام سرزد ہوتا ہے تو کہتے ہیں: اخزاہُ اللہ ما اشعرہ جس طرح کہتے ہیں: قاتلہ اللہ ما اشجعَہٗ: اس قسم کی دعاؤں میں معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ مدح مقصود ہوتی ہے۔ جیسے عام لوگ کہتے ہیں: یا مضروب ما احسنَہٗ الخِزیُ: خواری، ذلت، عذاب۔ الخِزیَۃُ و الخَزیَۃ: مصیبت، آفت، ایسی عادت جس سے انسان کو ذلیل ہونا پڑے۔ المَخزاۃ: باعث شرمندگی و ذلت۔

۲۔ خزِیَ ـَ خزایۃً و خزیً ہٗ و منہ: سے شرم کرنا صفت خزیٰ مونث خزیۃ و خزیا مونث خزیاء جمع خزایا، اِستخزیٰ: شرم کرنا، حیا کرنا۔

۳۔ الخِزیُ: نوری۔

○ خزیَ ـِ خزیًا و خزیً: گھٹیا، پست، رذیل، شرمناک، کمینہ، ذلیل، فرومایہ، قابل مذمت یا لائق مذمت ہونا یا ہو جانا۔ ـ خزایۃ من: پر شرمندہ اور نادم ہونا۔ خزیَ ـِ خزیًا ہٗ: کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، بدنام کرنا، پر اعتبار یا بھروسہ نہ کرنا، کو بے اعتبار کرنا، کو جھوٹا جاننا، کو شرمندہ کرنا خفیف کرنا، کو مصیبت میں پھنسانا۔ اخزیٰ ہٗ: کو ذلیل کرنا، نیچا دکھانا، رسوا کرنا، کی بے عزتی کرنا، کو بدنام کرنا، شرمندہ کرنا، نادم کرنا۔ اِستخزیٰ: شرمندہ ہونا۔ خِزیٌ و خزیٌ: شرمندگی، بے عزتی، ذلت، رسوائی، فضیحت، ذلیل حرکت۔ یا لَلخزیٰ: بڑی شرمناک بات ہے۔ خزیان مونث خزیٰ جمع خزایا: شرمندہ، شرمیلا، شرمسار، خجل، منفعل، شرمناک، رسوائی کا موجب، رسوا کن، دل آزار، صدمہ پہنچانے والا، بدنام، کمینہ، مَخزاۃ جمع مَخازٍ شرمناک بات، رسوائی، موجب رسوائی بات، باعث شرم، حرکت (جمع) شرمناک باتیں، رسوائی کی موجب حرکتیں یا کام، بدنامیاں۔ مَخزیّ شرمندہ، شرمیلا، شرمسار، خجل، منفعل، پریشان، مشکل میں ڈالا ہوا، گھبرایا ہوا، بوکھلایا ہوا۔ المخزی: شیطان۔ مُخزٍ شرمناک، موجب رسوائی، رسوا کن، دل آزار، صدمہ پہنچانے والا، رسوا، رسوائے عالم، بدنام، مُخزیۃ جمع مُخزیات: شرمناک، بدنامی۔

خس: ا۔ خَسَّ ـِ خَساسۃً و خُسوسۃً و خِسّۃً رذیل ہونا۔ ـ ـَ خِسّۃً و خَساسۃً فلانٌ: ذاتی طور پر کمینہ و سفلہ ہونا۔ ـُ خسًّا و خسّس نصیبَہٗ: کا حصہ کم کرنا۔ اخسّ گھٹیا کام کرنا، رذیل کام کرنا۔ ـہٗ: کو رذیل پانا، سے حقارت کرنا۔ اِستخسّ ہٗ: کو رذیل پانا، سے حقارت کرنا، کو حقیر جاننا۔ الخسیس جمع اخِسّۃ و خِساس: کمینہ، ذلیل، رذیل، فرومایہ، پاجی، صغیر، سفلہ، تھوڑا، حقیر ناقص، نکما، کم۔ الخسیسۃ جمع خسائس: الخسیس کا مؤنث، خسائس الامور حقیر باتیں الخساس والمَخسوس من الاشیاء: معمولی، حقیر چیز۔

۲۔ خَسّ ـِ خَساسۃً و خُسوسۃً و خِسّۃً: وزن یا اندازہ میں کم ہونا صفت: خسیس جمع خساس و اخِسّۃ۔ اخسّ حظّہ: کا حصہ کم کرنا۔ الخساسۃ تھوڑا مال۔

۳۔ تخاسوا الشیءَ: کو آپس میں لینا اور اس میں سبقت کرنا۔ المخاس: ہر وہ شے جس کا لین دین لوگ آپس میں کریں۔

۴۔ الخَسّ (ن) کاہو، برگ کاہو۔ خسّ الحمار و خسّ البقر (ن): وہ جنگلی گھاس۔ الخُنّس (فلک): وہ ستارے جو غائب نہیں ہوتے جیسے بنات نعش۔

○ خسّ ـِ خِسّۃً و خساسۃً: کمینہ ہونا، سفلہ ہونا، حقیر ہونا، ذلیل ہونا، کم ہونا، نرخ گرنا، قیمت گھٹ جانا مندا ہو جانا شرح مبادلہ کم ہو جانا۔ خسّ ـُ ہٗ کو کم کرنا، گھٹانا، خسّس ہٗ کو کم کرنا، گھٹانا۔ خسّۃ: برگ کاہو کا سرا۔ خِسّۃ و خساسۃ: کمینگی، حرامی پن، پاجی پن، کمینہ پن، خباثت، ذلت۔ خسیس جمع اخساء: حقیر، ذلیل، کمینہ، سفلہ، پست، خبیث، پاجی، فرومایہ، خوار، قابل نفرت، خستہ حال، مفلوک الحال، زار نزار۔ خسیسۃ جمع خسائس بدنامی، گھٹیا چال، بری حرکت۔

خسأ: ا۔ خسأ ـَ خسأً الکلبَ: کتے کو دھتکارنا۔ ـ و خسِیَٔ ـَ خسأً و انخسأ الکلبُ: کتے کا دور ہونا، دھتکارا جانا۔ خاسأ مُخاسأۃً و تخاسأ تخاسؤًا القومُ: ایک دوسرے کو پتھر مارنا۔ الخاسئ من الخنازیر و الکلاب: دھتکارا اور ہنکایا ہوا کتا یا سؤر جسے لوگوں کے پاس نہ پھٹکنے دیا جائے۔

۲۔ خسأ ـَ خسأً و خسوءً البصرُ: نظر کا تھکنا، کمزور ہونا۔

۳۔ الخسئ گھٹیا اور ردی اون وغیرہ۔

○ خسأ ـَ خسأً ہٗ: کو بھگا دینا، نکال دینا۔ خسِیَٔ ـَ خسأً: بھگا دیا جانا، نکال دیا جانا جلدی چلا جانا، نکل جانا، خسئتَ! جلدی سے نکل جاؤ، پرے ہٹو، دفع ہو جاؤ۔ اِخسأ الیکَ! جلدی سے نکل جاؤ، پرے ہو، دفع ہو جاؤ۔ اخسأ گھٹیا تر، کمینہ تر، کمزور تر، ذلیل تر خاسِئ: مسترد کیا ہوا، ٹھکرایا ہوا، اچھوت، جس کا حقہ پانی بند ہو، گھٹیا، کمینہ، بازاری، سوقیانہ، فرومایہ، ذلیل، قابل مذمت، لائق مذمت، شرمناک، رسوائی کا موجب، رسوا کن، رسوا، رسوائے عالم، بے کار، ناکام یا لا حاصل (کوشش) کمزور لاغر، نڈھال، ناتواں، بے ہمت۔

○ خستکۃ: ناسازی طبع، علالت۔ مُخستک علیل، جس کی طبیعت ناساز ہو۔ بیمار بیماروں کی طرح۔

خسر: ا۔ خسِرَ ـَ خسرًا و خُسرًا و خَسَرًا و خُسرًا و خَسارًا و خسارۃً و خُسرانًا: گھاٹا پانا، نقصان اٹھانا، گمراہ ہونا، ہلاک ہونا صفت: خاسر و خسِیر و خیسریٰ۔ خسرَ ـِ خسرًا و خُسرانًا المالَ: مال ضائع کرنا۔ خسّرہٗ کو نقصان دینا، گمراہ کرنا، ہلاک کرنا۔ اخسرہٗ: کو نقصان دینا، گمراہ کرنا، ہلاک کرنا۔ الرجلُ نفسَہٗ: نقصان میں پڑنا، نقصان اٹھانا۔ الخاسر: (فا)۔ کرّۃ خاسرۃ: ناکام حملہ نقصان دہ حملہ۔ الخَنسر و الخَنسریّ جمع خناسِرۃ: وہ شخص جو نقصان میں ہو۔

۲۔ خسرَ ـِ خسرًا و خُسرانًا المیزانَ: کم تولنا، کم کرنا، گھٹانا۔

○ خسِرَ ـَ خُسرًا و خسارًا و خسارۃً و خُسرانًا: گھاٹا پانا، نقصان اٹھانا، ـہٗ کو گنوانا، کھونا، گم کرنا سے محروم ہو جانا۔ ـ: راستہ بھٹک جانا، راستہ گم کر دینا، دور ہو جانا۔ ہلاک ہونا۔ خسّرہٗ کو نقصان پہنچانا، کو گھاٹے سے دو چار کرنا، کو تباہ و برباد کرنا، بگاڑنا، خراب کرنا۔ اخسرہٗ کو گھاٹا دینا،

گھاٹے سے دوچار کرنا۔ -ہ کو چھوٹا کرنا، قطع کرنا، کم کرنا۔ -علی فی ہ کو کچھ دینے میں دریغ کرنا، کے کچھ رکھنے پر جلنا، حسد کرنا، خار کھانا، رشک کرنا۔ نقصان، گھاٹا، خسارہ ضرر۔ نقصان، گھاٹا، خسارہ، ضرر، ضبطی، زوال، انحطاط، خرابی، بگاڑ، ابتری، سیاہ کاری، عیاشی اوباشی، لفنگا پن۔ جمع نقصان، ضرر (جمع) -فی میں نقصانات، (جنگ یا حادثے کے) مقتولین، مجروحین۔ بڑے افسوس کی بات ہے! بہت برا ہوا۔ ہارنے والا، نقصان اٹھانے والا، گھاٹے میں رہنے والا نقصان یا ضرر سے متاثر ہونے والا۔ گم گشتہ، ضائع، لاحاصل، ناامید، حقیقی نقصانات پر مشتمل، ہارنے والا نقصان اٹھانے والا، گھاٹے میں رہنے والا خراب کیا ہوا، بگڑا ہوا، فاسق، فاجر، بدکار، عیاش، اوباش، لفنگا، بدنام شخص، مشتبہ چال چلن والا، بدذات، بے اصول شخص۔ مخسر نقصان دہ، ضرررساں، مضرت رساں۔

خسع خسع خسعًا عنہ کذا سے کسی چیز کا دور کیا جانا۔ الخسع کمزور خاسع و خسیعة القوم۔ قوم کا ادنیٰ درجہ کا آدمی۔

خسف ۱۔ خسف - خسوفًا القمر چاند کو گہن لگنا۔ -المکان جگہ کا زمین میں دھنس جانا۔ -فلانٌ فی الارض زمین میں دھنس جانا۔ -ت العین آنکھ کا جاتا رہنا یا گڑھے میں بیٹھ جانا۔ خسفًا العین آنکھ پھوڑنا۔ -اللّٰہ الارض اللہ تعالیٰ کا زمین اور اس کے اوپر کی چیزوں کو دھنسا دینا۔ -اللّٰہ الارض بفلان اللہ تعالیٰ کا کسی کو زمین میں دھنسا دینا۔ خُسِفَ الرجلُ بالارض آدمی کا زمین میں دھنس جانا۔ انخسف و انخسفت الارض زمین کا اپنی اوپر کی چیزوں سمیت دھنس جانا۔ -ت عینُہ کی آنکھ کا اندھی ہونا۔ الخاسف جمع خُسُف -ۃ دھنسی ہوئی آنکھ الخسیف من العیون: دھنسی ہوئی آنکھ۔ الخسفة من الارض زمین کا نشیبی علاقہ الأخاسف و الاخاسیف نرم زمینیں۔

۲۔ خسف - خسوفًا السقفُ چھت کا گرنا۔ انخسف و انخسفت البئرُ کنویں کا منہدم ہونا، بیٹھ جانا۔

۳۔ خسف - خسفًا الشیءَ فتخسّف ھو کو پھاڑنا نتیجۃً چیز کا پھٹ جانا، کو قطع کرنا، کاٹنا۔ -البئر پتھریلی سنگلاخ زمین میں کنواں کھودنا جس کی وجہ سے پانی ہمیشہ کے لئے جاری ہو جائے۔ الخسف کنویں کی سوت۔ الخسیف جمع اخسفة و خسف و الخسوف جمع خُسُف من الآبار: چٹان میں کھودا ہوا کنواں جس کا پانی بند نہ ہو۔ -من النوق: بہت دودھ دینے والی اونٹنی جس کا دودھ جاڑے میں جلد ختم ہو جائے۔ -من السحاب پانی سے بھرا ہوا اٹھنے والا بادل۔

۴۔ خسف - خسوفًا الشیءُ کم ہونا، الرجلُ دبلا ہونا۔ الخسف کی، کہا جاتا ہے: باتوا علی الخسف انہوں نے بھوکے رہ کر رات کاٹی۔ شربنا علی الخسف ہم نے بغیر کچھ کھائے پیا۔ الخاسف جمع خُسُف دبلا، بیماری کی وجہ سے کمزور، لاغر، بھوکا۔

۵۔ خسف - خسفًا فلانًا کو ذلیل کرنا اور ناگواری کی بات پر مجبور کرنا۔ الخسف ذلت، عیب۔ -و الخُسف تذلیل اور ناگوار کام پر مجبور کرنا کہا جاتا ہے: سامہٗ الخسف و سامہٗ خسفًا و خُسفًا اس نے اس کو ذلیل کیا اور مشقت میں ڈالا۔

۶۔ الخسف و الخُسف (واحد خُسفة) اخروٹ۔

○ خسف - خسفًا و خسوفًا بیٹھ جانا، ڈوبنا، دھنس جانا، ٹوٹ جانا، غائب ہو جانا، کھو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، کافور ہو جانا (چاند کو) گرہن لگنا۔ -- خسفًا بٹھانا، دھنسانا، توڑنا۔ خسف اللّٰہُ بہ الارضَ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین سے اسے ہڑپ کرا لیا۔ انخسف بیٹھنا، دھنسنا، ڈوبنا۔ خسف گھٹیا پن، رذالت، پستی، کم اصلی، شرم کی بات، بے عزتی، بے وقری، بے قدری، تحقیر ذلت، رسوائی، بے غیرتی، شرم، شرمندگی۔ سامہ خسفًا د کو ذلیل کرنا، خفیف کرنا، نیچا دکھانا، بے عزت کرنا، بگاڑنا۔ خسوف حجاب پوشیدگی، اخفاء، چاند گرہن۔

خسق: خسق - خسقًا و خسوقًا السهمُ: تیر کا اچھی طرح نافذ نہ ہونا۔ الخساق بڑا جھوٹا۔ الخسقات کہا جاتا ہے: ھو ذو خسقات فی البیع: وہ بیع کو کبھی نافذ کرتا ہے کبھی فسخ کرتا ہے۔

خسل: خسل - خسلاۃً کو رذیل بنانا، جلاوطن کرنا۔ الخسالة و الخُسالة رذی چیز۔ الخسیل جمع خسال و خسائل حقیر، رذیل، ادنیٰ۔ المخسّل و الخُسّال رذیل اور کمزور لوگ۔ المُخسّل و المخسول رذیل، حقارت کیا ہوا۔

خسی: خاسی مخاساۃً و اخسی اخساءً و خسّی تخسیةً ہٗ ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے یا دو دو کر کے اخروٹ سے کھیلنا۔ الخسا جمع الأخاسِي: فرد، طاق۔

خش: ۱۔ خشّ - خشًّا زیدًا: زید کو نیزہ مارنا۔ -فیہ: میں داخل ہونا۔ -البعیرَ: اونٹ کی ناک میں لکڑی ڈالنا۔ انخشّ فیہ: میں داخل ہونا۔ -بین القوم: لوگوں کے درمیان داخل ہونا اور غائب ہونا گھل مل جانا۔ الخشّ (مص) درز یا شگاف۔ الخشاش واحد خشاشة جمع أخِشّة اونٹ کی ناک میں ڈالنے کی لکڑی۔

۲۔ خشّ - خشًّا الرجلُ جری ہونا۔ المِخشّ بہادر، جری، دل چلا، دلیر گھوڑا۔ الخُشاش شجاع، بہادر۔

۳۔ خشّ - خشًّا السحابُ بادل کا تھوڑی بارش برسانا۔ الخشّ تھوڑی بارش۔

۴۔ الخشّ کمزور چیز، پیادے۔ الخُشّ ٹیلہ۔ الخاشّ و حد الخشّ: پیدل۔ الخشاش: ردی۔ الخشاش واحد خشاشة جمع اخشّة (ح): زمین کے کیڑے مکوڑے، چھوٹے پرندے، چڑیاں (ح) پہاڑی سانپ، غضب۔ حرّک خشاشہٗ: وہ غضبناک ہوا۔ خشاشا الشیء: چیز کے دونوں کنارے۔ الخشّاء جمع خشّاوات و خشاشی: گارے اور کنکر والی زمین۔ الخُشّاء: کان کے پیچھے ابھری ہوئی ہڈی جو دو کانوں میں دو ہوتی ہیں۔

۵۔ خشخش خشخشةً و تخشخش السلاحُ او الحُلّی: ہتھیاروں یا زیورات کی جھنکار سنائی دینا۔ -فلانٌ بین الشجر او القوم: درخت یا لوگوں کے درمیان داخل ہو کر غائب ہو جانا۔ الخشخاش واحد خشخاشة (ن): پوست کا پودہ۔ (۲) ایک امریکی الاصل پودہ جس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں اور اس کے پھل پکا کر کھائے جاتے ہیں، اس کی بو خربوزہ جیسی ہوتی ہے۔ مصر جیسے گرم علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔

○ خشاش: کیڑے مکوڑے۔

خشب: ۱۔ خشب - خشبًا الشیءَ بالشیء: چیز کو چیز سے ملانا، خلط ملط کرنا۔ المخشوب: مخلوط نسل والا۔

۲۔ خشب - خشبًا الشیءَ: کو صاف کرنا، چھانٹنا۔ الخشیب جمع خُشُب و خشائب من السیوف: صیقل شدہ تلوار۔

۳۔ خشب - خشبًا السیفَ: تلوار کو صیقل کرنا۔ تخشّب السیفُ تلوار کو لکڑی جیسا بنانا۔ اختشب السیفَ: تلوار کو لکڑی جیسا بنانا۔ الخشب: تیز کرنا۔ الخشیب

جمع خُشُب و خشائب من السیوف صیقل شدہ تلوار۔ من القِسیّ تراشی ہوئی کمان۔

۴-خشَبَ ۔ خشبًا الکلامَ و العملَ کلام اور کام کو اچھی طرح نہ کرنا۔ و اختشبَ الشعرَ بلا تنقیح محض آمد کے مطابق شعر کہنا۔ الخشیب جمع خُشُب و خشائب ردّی۔ من السیوف تازہ ڈھالی ہوئی تلوار۔ المخشوب جسے اچھے طریقے سے نہ کیا گیا ہو، جس کو اچھی تعلیم و تربیت نہ دی گئی ہو۔

۵-خشُبَ الشیءُ موٹائی میں لکڑی کی طرح ہونا۔ تخشّبَ چراگاہ میں سوکھی گھاس چرنا۔ اخشوشبَ لکڑی کی طرح سخت ہونا۔ فی عیشہ مشقت پر صبر کرنا۔ الخشَب جمع خشَب و خُشْب و خُشُب و خُشبان موٹی لکڑی (ز) نباتات کی تخت قسم۔ الخشب الوردی (ز) قیمتی لکڑی کی متعدد انواع۔ الخشِب و الأخشب موٹا، کھردرا۔ عیشٌ خشِبٌ ناپسندیدہ، زندگی، تکلیف والی گزران۔ الخشیب لمبے قد والا سخت تنگی ہڈیوں والا کہا جاتا ہے جملٌ خشیب موٹا اونٹ۔ الخشّاب جمع خشّابة چوب فروش، لکڑی فروش۔ المخشاب پست قد موٹا آدمی۔ الخشباء سنگلاخ زمین جس میں پتھر، کنکر اور گارہ ہو۔

○ خشّبَ لکڑی بن جانا، چوبی یا لکڑی جیسا ہو جانا۔ -ہ۔ (دروازے میں) درمیانی یا حاشیہ پر تختے لگانا، پردے لگانا، کو لکڑی سے منڈھنا، پر لکڑی کی تہہ چڑھانا کے میان میں لکڑی لگانا، کی تختہ بندی کرنا۔ (فرش یا چھت میں) تختے لگانا، پر تختوں کا حاشیہ لگانا۔ تخشّبَ لکڑی بن جانا، چوبی یا لکڑی جیسا ہو جانا، سخت ہو جانا مضبوط ہو جانا، (دہشت سے) سخت ہو جانا منجمد ہو جانا۔ خشَب جمع اخشاب لکڑی، بھدی عمارتی لکڑی، عمارت کی لکڑی، فرنیچر وغیرہ بنانے کی لکڑی۔ خشَبة جمع خشبات و اخشاب لکڑی کا ٹکڑا، عمارتی لکڑی، شہتیر، تختہ۔ خشبة المیّت تابوت، مردے کو دفن کرنے کا صندوق۔ خشبة المسرح سٹیج (تھیٹر کا)۔ خشبی لکڑی کا، لکڑی کے متعلق، لکڑی کا بنا ہوا، لکڑی جیسا، عمارتی لکڑی کا، فرنیچر کی لکڑی کا، بھدی لکڑی کا۔ خشّاب عمارتی لکڑی کا تاجر جمع خشّابة۔ تخشیبة جمع تخاشیب بیرک، لکڑی کا شیڈ۔ تخشّب تختی۔ متخشّب جما ہوا، سخت، مضبوط۔

○ خشخشَ جھن جھن کرنا، کھڑکھڑانا کھٹا کھٹ کرنا، پٹ پٹ کرنا، چھن چھن کرنا جھر جھرانا، کھر کھرانا، سرسرانا۔ خشخشة جمع خشاخش آواز، جھنک، جھنکار، جھنجھناہٹ، چھن چھن، کھڑکھڑاہٹ، کھڑ کھڑ، جھنجھنا، غل غپاڑہ، ہنگامہ، سرسراہٹ۔ دھماکا، گڑگڑاہٹ، شور۔

خشر اخشَرَ ۔ خشرًا دسترخوان پر ردی چیز چھوڑ دینا۔ الشیءَ سے اس کا ردی حصہ چن کر نکالنا۔ خشِرَ ۔ خشَرًا حریص ہونا۔ الخُشار و الخشارة دسترخوان کا بچا کھچا، ہر چیز کا ردی حصہ، جو کا دانہ جس میں گودا نہ ہو رذیل لوگ۔ الخاشر واحد: خاشرة رذیل خاشرة الناس رذیل لوگ۔

۲-خشِرَ ۔ خشَرًا بزدلی سے بھاگ جانا۔

۳-خشرمت الضبعُ چرخ کا کھاتے ہوئے آواز نکالنا۔ الخشرم جمع خشارمة شہد کی مکھیوں یا بھڑوں کا دل۔ (ح) شہد کی مکھیوں کی بلکہ شہد کی مکھیوں کا چھتہ، نرم پتھر جس سے چونا بنایا جاتا ہے۔ الخُشارم بڑی ناک، موٹی آواز۔

○ خُشارة کھانے کا بچا کھچا گوشت، اوجھڑی چھیچھڑے، سڑا ہوا یا مردار گوشت، فضلہ، ردی، فضول چیز، وہ پتہ جو چھانٹا جائے، بے کار چیز۔

خشع اخشَعَ ۔ خشوعًا لہٗ کے آگے فروتنی کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا صفت: خاشع جمع خُشّع و خشعة و خاشعون۔ بصرُہٗ کی نگاہ کا پست ہونا۔ ببصرہ اپنی آنکھ کو نیچا کرنا۔ الصوتُ آواز کا پست ہونا۔ اخشعَہٗ کو عاجز کرنا، فروتنی پر برانگیختہ کرنا۔ تخشّعَ عاجزی دکھانا خاکساری دکھانا۔ و تخاشعَ فروتنی دکھانا۔ اختشعَ لہٗ سر جھکاتے ہوئے کسی کے آگے عاجزی کرنا۔

۲-خشَعَ ۔ خشوعًا الشمسُ سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الورقُ پتوں کا مرجھا جانا۔ ت الارضُ بارش نہ ہونے سے زمین کا خشک ہو جانا۔

۳-الخُشعة جمع خُشَع پست ٹیلہ۔ الخُشعة مردہ ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر نکالا ہوا بچہ۔ البقیر وہ ماں جو مر جائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو، تو ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر وہ بچہ نکالا جائے۔ مکانٌ خاشع وہ جگہ جس کی راہ نہ مل سکے۔ جدارٌ خاشعٌ دیوار جو گر کر زمین کے برابر ہو جائے۔ بلدةٌ خاشعة وہ شہر جس میں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہ ہو۔

○ تخشّعَ فروتنی کا اظہار کرنا، فروتن ہونا، خاکسار ہونا، متاثر ہونا۔ خشوع فرمانبرداری، اطاعت، فروتنی، عاجزی، انکسار، تسلیم۔ خاشع فروتن، خاکسار، اطاعت گزار، فرمانبردار۔

خشف ا۔خشَفَ ۔ خشوفًا و خشفانًا ملک میں جا کر غائب ہو جانا۔ خشفانًا رات کو چلنا۔ انخشفَ فی الشیءِ میں داخل ہونا۔ المخشف معاملات میں دخل دینے والا۔ من الرجال رات کو چلنے میں دلیر آدمی۔ المخشف بمعنی المخشف۔ الخُشّاف (ح) چمگادڑ۔

۲-خشَفَ ۔ خشفًا و خشفةً فی السیر تیز چلنا۔ خاشفَ الی الشرِّ برائی کی طرف جلدی کرنا، سبقت کرنا۔ کہا جاتا ہے خاشف فی ذمتہ اس نے بدعہدی اور عہد شکنی میں جلدی کی۔ سیفٌ خاشِفٌ تیز تلوار، کاٹ دار تلوار۔ الخشوف من الرجال تیز رفتار آدمی۔ من السیوف تیز تلوار، کاٹ دار تلوار۔

۳-خشَفَ ۔ خشوفًا و خشفانًا البردُ سردی کا تیز ہونا۔ الماءُ پانی کا جمنا۔ ماءٌ خاشف و خشِفٌ جما ہوا پانی۔ الخشف و الخشیف سخت برف، نرم مٹی۔

۴-خشَفَ ۔ خشافة بالقوم لوگوں کے ساتھ چلنا اور ان کی راہنمائی کرنا۔ خشّفَ راہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ المخشف رہبر۔

۵-خشَفَ ۔ خشفًا و خشفةً الجلیدُ چلنے پر برف کا آواز نکالنا۔ خاشفَ السهمُ نشانہ پر لگنے سے تیر کا آواز دینا۔ الخشف و الخشفة و الخشفة آواز، حرکت، آہٹ۔

۶-خشِفَ ۔ خشفًا البعیرُ اونٹ کے پورے بدلنا کا خارش والا ہونا، صفت اخشف مؤنث خشفاء جمع خُشف۔

۷-اخشفت الظبیةُ ہرنی کا بچے والی ہونا۔ الخشف (بتثلیث الخاء) جمع خشفة (ح) ہرنی کا نوزائیدہ بچہ۔

۸-الخشف ذلت۔ الخُشُف و الخُشَف واحد خُشَفة (ح) سبز رنگ کی مکھی۔ الخشاف (ط) خشک انگور جو پانی میں بھگو کر اس پانی کے ساتھ کھائے جائیں۔ خشاف الرمّان (ط) انار کے دانے جنہیں چینی ڈال کر میٹھا کر کے کھائے جائیں۔

○ خُشاف مختلف پھل جنہیں عرق گلاب وغیرہ میں بھگویا اور نیم پخت کیا جاتا ہے، پھلوں کا تازہ مربہ، قوام میں ڈالے ہوئے پھل۔

○ خُشکار دوا، دلیا، چوکر، بھوسی۔

○ خَشْكَرِيشة: پپڑی، کھرنڈ، سر کی خشکی بفا، زخم کا مردار حصہ۔

خشل: ۱۔ خَشَلَ ـُ خَشْلًا ہٗ: کو رذیل بنانا، حقیر بنانا۔ —الشرابَ: شراب صاف کرنا۔ خَشِلَ ـَ خَشَلًا الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ خَشَّلَ ہٗ: کو رذیل بنانا، حقیر بنانا۔ تَخَشَّلَ: ردی چیز لانا۔ الخَشْل واحد خَشْلَة: خالی کیا ہوا انڈا۔ الخَشَل واحد خَشَلَة: ہر ردی چیز۔

۲۔ تَخَشَّلَ: ذلیل ہونا۔ الخَشْل و الخَشِل: کمزور، کہا جاتا ہے۔ رجلٌ خَشْلٌ فَشْلٌ و خَشِلٌ فَشِلٌ: کمزور آدمی۔

۳۔ تَخَشَّلَ: سر جھکانا۔ الخَشْل واحد خَشْلَة: ہر کھوکھلی چیز۔

خشم: خَشَمَ ـِ خَشْمًا ہٗ: کی ناک کی جڑ توڑنا۔ خَشِمَ ـَ خَشَمًا و خُشومًا: چوڑی ناک والا ہونا۔ — الانفُ: ناک کا بدبودار ہونا۔ —خَشَمًا و اَخْشَمَ و تَخَشَّمَ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ خَشَّمَ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ — ہٗ الشرابُ: کو شراب کا مست و متوالا کرنا۔ الأَخْشَم مؤنث خَشْماء جمع خُشْم: چوڑی ناک والا، بو محسوس نہ کرنے والا۔ انفٌ أَخْشَم: بدبودار ناک۔ الخُشَام: بڑی ناک والا۔ الخَيْشُوم جمع خَياشيم: ناک کی جڑ۔ الخَياشيم: ناک کے اندر کی رگیں۔ خياشيمُ الجبال: پہاڑوں کی چوٹیاں۔ کہا جاتا ہے۔ اشرفت خياشيمُ الجبال۔ پہاڑی کی چوٹیاں بلند ہوئیں۔

○ خَشَّمَ ہٗ: کو مدہوش کرنا، مست کرنا، بے ہوش کرنا بے خود بنانا، کو مخمور کرنا۔ خُشْم: ناک، منہ، سوراخ، راستہ، نکاس، نکلنے کا راستہ۔ خَيْشُوم جمع خَياشِيم: ناک، نتھنے۔ خياشيم: ناک۔

خشن: خَشُنَ ـُ خُشْنَةً و خَشَانَةً و خُشُونَةً و مَخْشَنَةً: سخت اور کھردرا ہونا صفت: خَشِن جمع خِشَان، خَشَّنَ ہٗ: کو سخت اور کھردرا بنانا۔ کہا جاتا ہے۔ خَشَّنَ صدرہٗ: اس نے اس کو سخت غضبناک کیا۔ خَاشَنَ ہٗ: کے ساتھ سختی کا سلوک کرنا۔ تَخَشَّنَ: سخت کھردرا ہونا، سخت زندگی گزارنا، موٹے کھردرے کپڑے پہننا۔ تَخَاشَنَ: بتکلف سختی برتنا، سختی کرنا۔ اِسْتَخْشَنَ الشيءَ: کو سخت اور کھردرا پانا۔ اِخْشَوْشَنَ: بمعنی تَخَشَّنَ: اسی سے حضرت عمرؓ کا قول ہے: اخشوشنوا فانَّ النعمَ لا تدوم: سخت زندگی گزارا کرو۔ کیونکہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتیں۔

—عليه صدرُہٗ: پر غضبناک ہونا۔ الخَشِين: اکھڑ طبیعت کا۔ الأَخْشَن مؤنث خَشْناء جمع خُشْن: سخت، کھردرا۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ اَخْشَنُ: بدحال آدمی۔ اَخْشَنُ الجانب: طاقت سے باہر، دشوار۔ كتيبة خَشْنَاء: بہت ہتھیاروں سے لیس فوجی دستہ۔

○ خَشُنَ ـُ خُشُونَةً: کھردرا ہونا، سخت ہونا، خام ہونا نامکمل ہونا، ناتراش ہونا، صیقل شدہ نہ ہونا۔ خَشَّنَ ہٗ: کو کھردرا کرنا یا بنانا، بھدا بنانا بھونڈا بنانا۔ خَاشَنَ ہٗ: کے ساتھ بدلحاظ ہونا، غیر مہذب ہونا، اجڈ یا گنوار ہونا۔ تَخَشَّنَ: سخت، غیر مہذب یا بھونڈے انداز کا مظاہرہ کرنا، سخت ہونا، ناہموار ہونا، سخت زندگی گزارنا، اِخْشَوْشَنَ: سخت ہونا، کھردرا ہونا، نامہذب ہونا، کندہ ناتراش ہونا۔ سخت زندگی گزارنا۔ خَشِن جمع خِشَان: کھردرا، خام، ناتراشیدہ، سخت، غیر مہذب، بداخلاق، بدلحاظ، بے سلیقہ، بے ادب، بدتمیز، گستاخ تند، کڑا، بے ہنگم، بھونڈا، بھدا، سخت (زندگی)، گرفتہ، بیٹھی ہوئی، گلو گرفتہ، بھاری یا بھرائی ہوئی (آواز) خَشِنُ اللمس: چھونے میں کھردار، ناہموار، جھری دار۔ خَشِنُ الخُلُق: بھونڈے اخلاق والا، اجڈ، گنوار۔ خَشِنُ القِشْرَة: موٹے چھلکے دار۔ الجِنْسُ الخَشِنُ: جنس قوی (جنس نازک کے مقابلہ میں) مرد۔ اَخْشَن مؤنث خَشْنَاء جمع خُشْن: کھردرا، سخت، ناتراشیدہ، غیر مہذب، بداخلاق، بدلحاظ، بے سلیقہ، بے ادب، بدتمیز، گستاخ، تیز، تند سخت، زوردار، قوی، بے ہنگم، بھونڈا، بھدا، گنواروں کا سا۔ الخَشْنَاء: غیر مہذب اور غیر تعلیم یافتہ لوگ۔ خُشُونَة: کھردرا پن، اکھڑپن، بدمزاجی، رکھائی، کرختگی، سختی، گھٹیا پن، کچا پن، تندی، بے ہودگی، بدتہذیبی، گستاخی، بدتمیزی۔

خشي: ۱۔ خَشِيَ ـَ خَشْيًا و خِشْيًا و خَشْيَةً و خَشَاةً و خَشَيَانًا و مَخْشِيَةً و مَخْشَاةً ہٗ: سے ڈرنا خوف کرنا۔ خَشَّى تَخْشِيَةً و خَشَّاءً ہٗ: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، مرعوب کرنا۔ —ہٗ فلانًا: کو سے ڈرانا، کو سے خوف دلانا۔ تَخَشَّى تَخَشِّيًا ہٗ: سے ڈرنا، خوف کرنا، خوف کھانا۔ الخَشِيّ و الخَاشِي و الخَشْيَان و الخَشِي مؤنث خَاشِيَة و خَشِيَة و خَشْيَانة و خَشْيَا جمع خَشَايَا: ڈرنے والا۔ الأَخْشَى: اسم تفضیل، زیادہ ڈرنے والا۔ کہا جاتا ہے۔ هذا المكان اَخْشَى من ذاك: یہ جگہ اس سے زیادہ خوف کی ہے۔

۲۔ الخَشِي و الخَشِيّ من النبات: خشک پودا، گھاس۔

○ خَشِيَ ـَ خَشْيًا و خَشْيَةً ہٗ/ہ: سے ڈرنا، خوف کھانا۔ —علی: کے لئے خوف کھانا، ڈرنا۔ —ہ: سے خوف زدہ ہونا۔ خَشَّى ہٗ: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، دہشت زدہ کرنا، چونکانا، ڈرا کر بھگا دینا، میں دہشت پیدا کرنا، کو چوکس یا چوکنا کرنا کو خطرہ سے خبردار کرنا، گھبرا دینا۔ تَخَشَّى: بمعنی خَشِيَ۔ اِخْتَشَى: گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، شرمندہ ہونا۔ خَشْيَة: خوف، ڈر، پریشانی، اندیشہ، خدشہ، فکر تشویش، خشيةً من: کے خوف سے۔ اَخْشَى: زیادہ ڈرپوک یا بزدل، زیادہ خوف زدہ، جس سے زیادہ ڈرا جائے زیادہ خوف زدہ کرنے والا۔ خَشْيَان مؤنث: خَشْيَا جمع خَشَايَا: ڈرپوک، بزدل، پریشان، خائف، اندیشناک خَاشٍ: ڈرپوک، بزدل، پریشان، خائف، اندیشناک۔

خص: ۱۔ خَصَّ ـُ خَصًّا و خُصُوصًا و خُصُوصَةً و خُصُوصِيَةً و تَخِصَّةً و خِصِّيَّةً و خِصِّيصَى و خِصِّيصَاءَ فلانًا بالشيءِ: کو سے خصوصیت دینا، سے کچھ خاص کرنا۔ کہا جاتا ہے: خَصَّہٗ بالودّ: اس نے اسی سے محبت کی۔ — خُصُوصًا الشيءُ: خاص ہونا۔ —الشيءَ لنفسہ: کو اپنے لئے مخصوص کرنا، یا چن لینا۔ خَصَّصَ الشيءَ: کو خاص کرنا، —ہ بالشيءِ: کو کے ساتھ خاص کرنا۔ اِخْتَصَّ بالشيءِ: سے خاص ہونا۔ —ہ بالشيءِ: کو سے خاص یا مخصوص کرنا۔ اس سے قول ہے: اللہُ يختصّ برحمتہ من يشاء: اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ تَخَصَّصَ بالشَّيءِ: سے مخصوص ہونا، میں منفرد ہونا۔ —الرجلُ: خاص لوگوں میں سے ہونا۔ اِسْتَخَصَّ الشيءَ: چاہنا یا درخواست کرنا کہ چیز اس کے لئے مخصوص ہو۔ الخاصّ (فا): خاص (عام کی ضد)، یکتا، تنہا۔ الخاصۃ جمع خواصّ: خاص (عام کی ضد) خود اپنے لئے خاص کی ہوئی چیز۔ خاصۃُ الملك: بادشاہ کے مقربین، عمائدین سلطنت، —والخَوَاصّ والخُصَّان والخِصَّان من القوم: قوم کے چیدہ، بزرگ و برگزیدہ لوگ۔ کہا جاتا ہے۔ انما يفعل هذا خُصَّانُ الناس: اس کو برگزیدہ لوگ ہی کرتے ہیں یعنی قوم کے بڑے ہی ایسے کام سرانجام دیا کرتے ہیں۔ الخَاصِيَّة جمع خَاصِيَّات و خَصَائِص: خاصہ کی طرف نسبت۔ الأَخَصّ: افضل، کہا جاتا ہے: لم يكن في اَطِبّائہ اخصّ من هذين: اس کے معالجین میں ان دو میں سے افضل کوئی اور نہ تھا۔

الخصُوص والخصُوص: علیحدگی، خصوصیت، (عموم کا مقابل) انحصار (اطلاق کا مقابل)۔ کہا جاتا ہے علی الخصُوص و خصُوصاً: خاص طور پر جیسے مثلاً الحریری کا یہ قول لن یصقل الخاطر و ینشط الفاتر، کقائلة الهواجر و خصُوصاً فی شهری ناجرٍ: حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے یعنی خاصًا ناجرا یا مصدر کی بنا پر یعنی اخصّ خصوصاً ناجرا فی شهری ناجر: جون اور جولائی کے دو مہینوں میں۔ خاص طور پر جون اور جولائی کے مہینوں میں کوئی بھی فحش گو عورت کی طرح خیال کو جلا نہیں دے گا اور نہ کمزور کو چشت کرے گا۔ خُوَیْصَة الانسان: خدمت گاری کے لئے مخصوص شخص۔

۲۔ خَصَّ ـَ خصاصةً و خَصَاصاً و خَصَاصاءَ: محتاج ہونا۔ مفلس ہونا، ضرورت مند ہونا۔ اِخْتَصَّ: محتاج ہونا، حاجت مند ہونا مفلس ہونا۔ الخصَاصَة: غربت، مفلسی، بدحالی۔ کہا جاتا ہے۔ سددتُ خصاصةَ فلان: میں نے فلاں شخص کی مفلسی کو دور کر دیا۔

۳۔ الخُصّ جمع اَخْصَاص و خُصُوص و خِصَاص: بانس یا لکڑی کی جھونپڑی، شراب فروش کی دوکان۔ الخِصّ: ناقص کہا جاتا ہے شهرٌ خِصٌ: ناقص مہینہ۔ خاصَّةُ النبات: بوئی کی قوت اور اثر۔ الخُصَاصة جمع خُصَاص: انگور توڑنے کے بعد بیل پر رہ جانے والے انگور کے چھوٹے چھوٹے گچھے، تھوڑی چیز۔ الخَصَاص: واحد خَصَاصة: دروازہ یا برقع وغیرہ کا شگاف، سوراخ (کہا جاتا ہے بدالقمُر من خصاص الغیم: چاند بادل کے درمیان سے ظاہر ہوا۔ لمحته من خصاص الباب: میں نے اسے دروازے کی جھری سے دیکھا) عمارت، مکان وغیرہ کے شگاف۔

○ خَصَّ ـُ خَصًّا ہ: کو ممتاز کرنا، کی مدد کرنا، ہمدردی کرنا (خصوصاً دوسروں کے سامنے) کو چن لینا، کو خصوصی اعزاز دینا۔ — ہ ب: کو کچھ عطا کرنا، دینا، کو کے لئے وقف کرنا، مخصوص کرنا۔ —ہ: پر قابض ہونا، کا مطالبہ کرنا۔ —ہ: سے خصوصی طور پر متعلق ہونا، کی خصوصیت ہونا کا وصف ہونا، کا مخصوص ہونا۔ —ہ: سے خاص طور پر متعلق ہونا، کے لئے خصوصی طور پر قانونی یا معقول ہونا۔ — ہ/ہ: سے تعلق رکھنا، سے متعلق ہونا۔ —ہ: سے خاص تعلق رکھنا، سے علاقہ رکھنا، سے متعلق ہونا۔ خَصَّهُ بِعِنایَتِهِ: کو اپنی توجہ کے لئے مخصوص کرنا، پر اپنی توجہ سے مہربانی کرنا۔ خَصَّهُ بالذکر: کا خصوصی ذکر کرنا۔ و اَخُصُّ منهم: ان میں، میں خاص طور پر ذکر کرتا ہوں۔ هذا لا یَخُصُّنی: یہ میرے متعلق نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ خَصَّصَ ہ: کی صراحت کرنا، کی تعیین کرنا، کی تفصیلات دینا، کا نام لینا، کو ایک ایک کر کے لکھنا، کا خاص خیال رکھنا، کی طرف خصوصی توجہ دینا۔ — ہ ل: کو تک محدود رکھنا۔ — ہ ل: کو تک محدود رکھنا۔ ہ/ہ ل: کو کے لئے الگ کرنا، مخصوص کرنا یا خاص مقصد کے لئے متعین کرنا، کو کے لئے مقرر کرنا، مامور کرنا، الگ کرنا، علیحدہ کرنا چن لینا، کو کے لئے تجویز کرنا، مختص کرنا کو کے لئے اٹھا رکھنا، سنبھال رکھنا۔ — ہ ب: کو کسی خاص شعبہ کا پابند کرنا۔ تَخَصَّصَ ل/ ب/ فی: کا متخصص بننا، ماہر ہونا، کا سپیشلسٹ ہونا۔ — ل: اپنی پوری توجہ کے لئے مخصوص کرنا، کو تن دہی سے کرنا میں حصہ لینا، شریک ہونا، سے مخصوص ہونا، کے لئے چنا جانا، مامور ہونا، مقرر ہونا، مختص ہونا۔ اِخْتَصَّ ہ ب: کو سے ممتاز کرنا، کی سے مدد کرنا، پر سے مہربانی کرنا، کو کا اعزاز دینا، کے لئے کوئی چیز مخصوص کرنا کو کوئی چیز (دوسروں کے مقابلہ میں) دینا، عطا کرنا، بہم پہنچانا کو کچھ (اپنی خدمات) نذر کرنا۔ — ہ (لنفسه): کو بلا شرکت غیرے رکھنا، کا دعوی کرنا، مطالبہ کرنا، پر حق جتانا۔ اختص به نفْسَهُ: کا دعوی کرنا۔ اختص ب: کا اکیلا مالک ہونا، دوسروں پر یہ فوقیت رکھنا کہ۔ سے مخصوص ہونا، متعلق ہونا، تعلق رکھنا، میں مستند ہونا، اہل ہونا، مجاز ہونا، کا اختیار رکھنا۔ خَسّ: کاہو، سلاد۔ خُصّ جمع خِصَاص و اَخصاص و خُصُوص: جھونپڑی، جھونپڑا، چھپر۔ خَصَّة: پانی کی تیز دھار۔ خَصَاص: شگاف، درز، درمیانی فاصلہ، دراڑ، خلا۔ خَصَاصَة: درز، شگاف، خلا، خصیصة جمع خصائِص: خاص خصوصیت، وصف، یا خوبی، کمال، امتیازی خصوصیت، تخصیص، انفرادیت، خاصہ، خاصیت، ندرت۔ خصیصا: خاص طور پر، خاص کر، بالخصوص۔ فی خصوص بخصوص اور من خصوص: کے بارے میں، کے متعلق، خصوصاً۔ خُصُوصا: خاص طور پر، خاص کر، بالخصوص۔ بهذا الخصوص اور من هذا الخصوص: اس سلسلہ میں، اس ضمن میں اس معاملہ میں، اس کے بارے میں، اس کے متعلق، اس پہلو سے۔ علی الخصوص اور علی وجه الخصوص: خاص طور پر، خاص کر بالخصوص، خصوصاً۔ خُصُوصِیّ: خاص، غیر معمولی، نجی، ذاتی، انفرادی، اپنی۔ خَصَاصَة: غربت، افلاس مفلوک الحالی، بے نوائی، ضرورت، احتیاج، ضرورت مندی۔ اَخَصّ: زیادہ خاص، خاص تر، زیادہ خصوصی، زیادہ مخصوص، خصوصاً بالخصوص۔ اِخْصَّاء: جگری دوست، لنگوٹیے یار، راز دار، ہمراز (جمع) اِخْصَائِی: سپیشلسٹ، کسی (اختصاص شعبے کا) ماہر جمع اَخِصائیون۔ تخصیص: (کسی شعبہ میں) تخصص پیدا کرنا، ماہر بننا، مہارت (Spacielization) تفصیل، تصریح، نام بہ نام ذکر، ایک ایک کر کے لکھنا، مقرر کرنا، مامور کرنا، معین کرنا (کسی مقصد کے لئے) مقررہ حصہ، تقسیم، حصہ دہی، تعین، استقرار، نامزدگی، ریزرویشن (جمع تخصیصات): تصرف، قبضہ، مالی اختصاص، قرضے علی تخصیص اور علی وجه التخصیص: بالخصوص، خاص طور پر۔ تَخَصُّص (کسی علمی شعبہ میں) تخصص، سپیشلا ئزیشن، اختصاص جمع اختصاصات: دائرہ اختیار، اہلیت، استعداد، لیاقت، قابلیت، خاص علاقہ، عملداری۔ (جمع): خصوصی اختیار، امتیازی حقوق، مراعات، اجارہ داریاں۔ ذو (ذات) الاختصاص: کما حقہ اہل، مختار، مجاز، ذمہ دار، صاحب اختیار۔ دائرة الاختصاص: صلاحیت کی حد، حلقہ اقتدار، حلقہ اختیار، عملداری، میدان، شعبہ اِختِصَاصِی۔ جمع اختصاصیون: سپیشلسٹ، خاص: خاص، غیر معمولی، مخصوص، معین، ممتاز، —ب: سے متعلق، (کے لئے) مخصوص، مختص، مقرر، الگ کیا ہوا، تھام کر رکھا ہوا، کے لئے خصوصی طور پر درست، جائز، موزوں، ضروری، برمحل کی خصوصیت، کا وصف۔ خاص: ممتاز، نجی، خاص، مخصوص۔ جریدة خاصة ب: کے لئے پیشہ ورانہ رسالہ۔ الخاص والعام: خاص و عام، بلند و پست، سب لوگ۔ الطبیب الخاص: خاص معالج۔ خاصَّة جمع خَوَاص: مخصوص خاصہ، نجی قبضہ، امتیازی خصوصیت، خاصہ، خصوصیت وصف، صفت، روح، ذاتی طبیعت، بڑی شخصیات، ممتاز لوگ۔ الخاصّة: بالائی طبقہ، تعلیم یافتہ لوگ خاصة و بِخاصةٍ: خصوصاً، خاص طور پر، خاص کر، بالخصوص فی خاصةِ انفسهم: ان کے دلوں کی گہرائی میں۔ خاصِیَّة جمع خاصیات و خصائص: امتیازی خصوصیت، خاصہ، علیت، اہلیت، خصوصی امتیاز، امتیازی حق، حلقہ اختیار، قابلیت، صلاحیت، استعداد، اہلیت، خُوَیْصَّة: کسی کا اپنا کاروبار ذاتی معاملہ۔ یدخل فی خویصة امری: وہ میرے نجی معاملات میں دخل دیتا ہے۔ مخصوص: خاص۔ مُخَصَّص لِ: کے لئے چنا ہوا، الگ کیا ہوا،

مختص کیا ہوا، کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، الاٹ شدہ، تقسیم شدہ، مختص شدہ جمع مخصصات (مالی) تعینات، تصرفات، قرضے۔ (روزانہ) الاؤنس، راشن۔ مخصصات اضافیہ: زائد الاؤنس۔ مخصصات مدنیہ: سول فہرست۔ مختصات: صلاحیتیں، السلطات المختصۃ: ارباب اختیار۔ اللوائح المختصۃ: با اختیار حلقے۔

خصب خصب - خصب - خصبًا المکانُ: جگہ کا سرسبز، ہرا بھرا یا زرخیز ہونا، صفت: خصیب و خصب و مخصب و مخصاب۔ اخصبَ المکان: جگہ کا سرسبز ہونا، زرخیز ہونا، ہرا بھرا ہونا۔ - اخصبَ اللّٰہ المکانَ: اللہ تعالیٰ کا جگہ کو سرسبز اور زرخیز کرنا۔ - الشاۃ: بکری کا سرسبزی میں پہنچنا۔ - القوم: قوم کا سرسبزی پانا۔ کہا جاتا ہے۔ اخصب جناب القوم: قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔ محلّہ میں سرسبزی و شادابی پائی گئی۔ الخصب جمع اخصاب: زرخیزی، سرسبزی زندگی کی فراخی، خوش حالی۔ کہا جاتا ہے۔ بلد خصبٌ و اخصاب و ارض خصبٌ و بلد خصبٌ و ارضٌ خصبۃ او خصبۃ: سرسبز و شاداب شہر اور زمین۔ المخصاب واحد مخصابۃ: بہت پھلدار کھجور کا درخت۔ الخصیب: صاحب خیر و فیض۔

○ خصب و خصب - خصبًا (مٹی کا) سرسبز ہونا، زرخیز ہونا، خصّبہ: کو زرخیز بنانا، بارآور بنانا، ثمردار بنانا، پھل لانے کے قابل بنانا۔ اخصبَ بمعنی خصب۔ خصب: زرخیزی، شادابی، بارآوری بہتات، پوری رسد، کثرت۔ خصب و خصیب: زرخیز بارآور، سرسبز، فصل دینے والی۔ پیدا کرنے کے قابل، بہت پیداوار والی (زمین)۔ خصوبۃ: زرخیزی، شادابی بارآوری۔ تخصیب: زرخیز بنانا، ثمرداری، بارآوری۔ اخصاب: زرخیزی، شادابی، بارآوری۔ مخصبات: کھادیں، کیمیائی کھادیں۔ مخصب: زرخیز، بارآور، سرسبز، فصل دینے والی، پیدا کرنے کے قابل، بہت پیداوار والی۔ (زمین)

خصر ۱۔ خصِر - خصرًا الیوم: دن کا ٹھنڈا ہونا۔ - الرجلُ: سردی سے کے اطراف اعضاء میں تکلیف ہونا۔ اخصرَ القرُّ انامله: سردی کا کی انگلیوں کو ٹھنڈا کر دینا۔ الخصر: ٹھنڈ، سردی۔ الخصِر: ٹھنڈا۔

۲۔ خاصر مخاصرۃً: کا ہاتھ پکڑ کر چلنا، کے پہلو میں چلنا یا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالکر چلنا۔ تخاصرَ: پہلو پر ہاتھ رکھنا۔ تخاصرَ: کمر پر ہاتھ رکھنا۔ القوم: ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا۔ اختصر بالعصا: چلنے میں لاٹھی پر ٹیک لگانا۔ الخصر جمع خصور: کمر۔ الخِصار: ازار۔ الخاصرۃ جمع خواصر من الانسان: پہلو۔ المخصَّر: پتلی کمر والا۔ رجل مخصور: وہ شخص جس کی کمر یا پہلو میں درد ہو۔ المخصرۃ جمع مخاصر: ٹیک لگانے کی لاٹھی وغیرہ۔

۳۔ تخصّر بالمخصرۃ: لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں تھامنا۔ اختصر الرجلُ: ہاتھ میں لاٹھی وغیرہ لینا۔ المخصرۃ جمع مخاصر: کوڑے جیسی کوئی چیز، چھڑی جس کو بادشاہ تقریر یا خطبہ کے وقت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔

۴۔ اختصر الکلام: کلام کو مختصر کرنا۔ - الطریقَ: قریب ترین راستہ اختیار کرنا۔ - فی الشیء: کسی شئے کے فضول حصہ کو حذف کر دینا۔ اخصر: اخصر سے اسم تفضیل، جو خلاف قیاس ہے۔ مخاصر الطریق: قریب ترین راستے، نزدیک کے راستے۔ الاختصار: مختصر نویسی، شارٹ ہینڈ۔

۵۔ خصرُ (جمع خصورُ) القدم: پاؤں کے تلوے کا وہ حصہ جو زمین سے نہ لگے۔ المخصّر کہا جاتا ہے۔ ھو مخصّرُ القدمین: یہ وہ شخص ہے جس کا تلوا زمین پر نہیں لگتا۔ بلکہ صرف پنجہ اور ایڑی زمین پر لگتی ہے۔

○ خصِر - خصرًا: ٹھنڈا ہو جانا، سردی لگنا۔ خاصرہ: کو کمر کے گرد بھینچنا، کی کمر کے گرد ہاتھ رکھنا۔ اختصرہ: کو مختصر کرنا، کی تلخیص کرنا۔ خصر جمع خصور: کولہا، کمر۔ مخصرۃ جمع مخاصر: چھڑی، لاٹھی، عصا، عصائے حکومت، عصائے شاہی۔ بالاختصار اور باختصار: مختصراً، قصہ کوتاہ، المختصر، الغرض۔ خاصرۃ جمع خواصر: کولہا، کمر، شوکۃ فی خاصرتہ: کے پہلو میں کانٹا۔ مختصر: مختصر کیا ہوا، مختصر لفظوں میں بیان کیا ہوا، خلاصہ کیا ہو، تلخیص کیا ہوا، مختصر، مجمل، مختصر، موجز، جامع مختصر اور جامع، جمع مختصرات: مختصر اقتباس، مختصر تشریح، خاکہ، خلاصہ، مُلخّص، تلخیص، ماحصل، لبِ لباب۔

خصف ۱۔ خصَفَ - خصفًا و اخصفَ و اختصف النعلَ: جوتا سینا، جوتے کی مرمت کرنا، جوتے میں پیوند لگانا۔ - الشیءَ علی الشیء: چیز پر چیز چپکانا کہا جاتا ہے ھم یخصفون اقدام القوم باقدامھم: وہ لوگ قوم کے نقش قدم پر چلتے اور ان کی حرف بحرف پیروی کرتے ہیں۔ خُصِفَ بہ: کے پیچھے کیا جانا، کے لاحق کیا جانا۔ الخصف (مص) جوتا۔ الخصَف و الخصَفۃ: چمڑے کا ٹکڑا جس سے جوتے کو سیا جاتا ہے۔ الخُصفۃ: جوتے وغیرہ کا سوراخ۔ الخصّاف: موچی۔ الخصیف: سلا ہوا جوتا۔ المِخصف جمع مخاصف: ستالی۔

۲۔ خصَّفَ: بد خلق و بد مزاج ہونا۔

۳۔ خصَّفَ: تکلف سے اس چیز کی کوشش کرنا جو اس کے پاس نہ ہو۔

۴۔ خصّفَ ہُ الشیبُ: بڑھاپے سے کسی کے آدھے بال سفید ہو جانا۔ اور ان کی سیاہی سفیدی یکساں ہو جانا۔ الخصَف: سفید اور سیاہ سے مرکب رنگ۔ الخصیف: راکھ۔ - والاخصف: سفید اور سیاہ رنگ کا۔ سفید پہلوؤں والا گھوڑا یا بکری۔ شاۃ مخصوفۃ: سیاہ و سفید رنگ کی بکری۔

۵۔ الخصَفۃ جمع خصَف و خِصاف: کھجور وغیرہ کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکری، گاڑھا کپڑا۔ الخصیف: تازہ دودھ جو دہی میں ملایا گیا ہو۔ الخصّاف: بڑا جھوٹا۔

خصل ۱۔ خصَلَ - خصلًا الشیءَ: کو کاٹنا، جدا کرنا۔ خصّلَ ہُ: کے ٹکڑے کرنا۔ - الشجرَ: درخت کو چھانٹنا۔ الخُصلۃ جمع خُصَل: بالوں کا گچھا۔ گوشت کا عضو۔ الخُصَل: درخت کے لٹکتے ہوئے اطراف۔ المِخصَل: کاٹ دار تلوار (المِقصَل کی ایک کمزور لغت)۔ الخَصیلۃ جمع خَصیل و خصائل: بالوں کا گچھا۔ المِخصال: درانتی۔

۲۔ خصَلَ - خصلًا و خِصالًا القومَ: لوگوں سے فائق و برتر ہونا، سے بازی لے جانا، پر سبقت لیجانا، سے بڑھ جانا۔ خاصَلَ خِصالًا و مخاصلۃً: سے شرط باندھ کر تیر اندازی میں مقابلہ کرنا۔ اُخصِلَ الرامی: ٹھیک نشانہ پر مارنا۔ تخاصَلَ القومُ: لڑائی اور تیر اندازی میں آپس میں شرط باندھنا۔ الخَصل جمع خُصول: تیر کا ٹھیک نشانہ پر لگنا، لڑائی میں لگائی گئی شرط، جس پر جوا کھیلا جائے۔ کہا جاتا ہے: احرزَ خصلۃً و اصابَ خصلۃً: وہ غالب ہوا۔ الخَصلۃ جمع خِصال: تیر کا ٹھیک نشانہ پر لگنا۔

۳۔ الخَصلۃ جمع خِصال: عادت، اچھی ہو یا بری، زیادہ استعمال اچھی عادت کے لئے ہے۔ - والخُصلۃ جمع خُصَل: گچھا، کانٹے دار لکڑی، تر لکڑی کا کنارا۔ الخَصیلۃ جمع خَصیل و خصائل: پٹھے دار گوشت، کہا جاتا ہے: ارتعدت

فرائصُہ و اضطربت خصائِلُہٗ: اس کے شانہ کا گوشت لرزنے اور پٹھے والا گوشت تھرتھرانے لگا۔

○ خُصْلَۃ جمع خُصَل وَخُصُلات گچھا، خوشہ، گڈی، بالوں کا گچھا، جھرمٹ، جھنڈ، بالوں کی لٹ، زلف، گیسو، بالوں کا چھوٹا سا مٹھا۔ خَصْلَۃ جمع خِصال خوبی، اچھائی، خصوصیت، خاصیت، سیرت، عادت، وصف، خصلت، کمال، گن، ذاتی خوبی، صفت، خاصہ، طبعی خصوصیت، خو، فطرت، انفرادیت ندرت، امتیازی وصف، افتادِ مزاج، رجحان۔

خصم ا۔ خَصَمَ ِ خَصْمًا ہُ: پر جھگڑنے میں غالب آنا۔ خاصَمَ خِصامًا و مُخاصَمَۃً ہٗ: سے جھگڑا کرنا، نزاع کرنا۔ اسم: الخُصُومَۃ۔ اَخْصَمَ ہٗ: کو دلیل سمجھانا، کے خلاف دلیل مہیا کرنا۔ تخاصَم و اختصم القوم: آپس میں تنازع کرنا، جھگڑنا۔ الخصم جمع خصوم و خصام: جھگڑا کرنے والا، مخالف۔ یہ دو، جمع اور مؤنث کے لئے آتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: ھُما وھُمْ وھِیَ خَصْمِی وہ دونوں، وہ بہت سے اور وہ (عورت) میرے مخالف ہیں۔ عام لوگ خصم کی جمع اخصام استعمال کرتے ہیں۔ الخَصِم جمع خَصِمُون والخَصُوم: مخالف، جھگڑا کرنے والا۔ الخَصِیم جمع خُصَمَاء و خُصْمان: جھگڑا کرنے والا۔

٢۔ الخُصْم جمع اَخصام و خُصُوم: گوشہ، جانب۔

○ خَصَمَ ِ خَصْمًا ہ: (مخالف) کو دلائل میں شکست دینا۔ ــہ من: کو سے منہا کرنا، تفریق کرنا، منفی کرنا، گھٹانا، نکالنا کم کرنا، مجرا کرنا۔ ــہ: بل، پرونوٹ) پر کمشن دینا، چھوٹ دینا۔ خاصَمَ ہ: سے جھگڑنا، کے مخالف رائے دینا، سے بحث کرنا کے خلاف دعوی کرنا، پر نالش کرنا، سے مقدمہ بازی کرنا۔ خُصَم جھگڑنا، مخالف رائے کا اظہار کرنا، لڑنا، ــمع: سے مقدمہ بازی کرنا، کے خلاف قانونی کارروائی کرنا، قانونی چارہ جوئی کرنا۔ اِنْخَصَم: منہا ہونا، تفریق ہونا، مجرا ہونا، کم ہونا، گھٹنا، نکلنا۔ اختصم: جھگڑنا، بحث کرنا، لڑنا۔ خَصْم جمع خُصُوم و اَخْصام: حریف، مقابل، دشمن، مدمقابل، مخالف، (مقدمہ میں) مخالف فریق۔ خَصْم: منہائی، تفریق، مجرائی، کٹوتی، کمشن جمع خُصُوم: قرض، بار، بوجھ، (ادائیگی کی) ذمہ داریاں۔ سِعْرُ الخَصْم: کٹوتی کی شرح، بنک کی شرح۔ خَصْمُ الکِمْبِیالات: بل کی کٹوتی۔ خَصِیم جمع خُصَمَاء و خُصْمان: حریف، مقابل، دشمن مدمقابل، مخالف۔ خُصُومَۃ: جھگڑا، بحث، مناقشت، تکرار، مباحثہ، قیل و قال، نزاع، خاندانی جھگڑا، باہمی منافرت۔ خِصام: جھگڑا، بحث، نزاع، مناقشت، مباحثہ۔ قیل و قال، خاندانی جھگڑا، باہم منافرت، مقدمہ۔ مُخاصِم: حریف، دشمن، مخالف (مقدمہ میں) مخالف فریق، فریق مقدمہ، فریق۔

خصی خَصَی ِ خِصاءً ہٗ: کو خصی کرنا۔ الخَصِی فوطوں میں درد والا۔ الخَصِیّ جمع خِصْیَۃ وخِصْیان: خصیے نکالا ہوا، آختہ۔ الخُصْیَۃ جمع خُصًی (ع ا): فوطہ، خصیہ۔ خُصْیَۃُ البَحْرِ وخُصَی الثعلب وخُصَی الدیك و خُصَی الکلب (ن): نباتات کے نام۔

○ خَصَی ِ خِصاءً ہ: کو آختہ کرنا، ہیجڑا بنانا، نامرد بنانا، خصی کرنا۔ خِصِی جمع خِصْیان وخِصْیَۃ: ہیجڑا، زنخا، خواجہ سرا۔ خُصْیَۃ جمع خُصًی: خصیہ، فوطہ، بیضہ۔ مَخْصِی: آختہ کیا ہوا، ہیجڑا بنایا ہوا، نامرد بنایا ہوا، خصی کیا ہوا۔ فرسٌ مخصی: خصی گھوڑا۔

○ اِخْصَائی جمع اخصائیون: سپیشلسٹ، (کسی تخصص کے شعبہ کا) ماہر۔

خضض ا۔ خَضَّضَ الجاریۃَ: لڑکی کو سفید مہروں اور منکوں سے آراستہ کرنا۔ الخَضَض: سفید مہرے۔ الخَضاض: کم حیثیت زیور۔

٢۔ خاضَّ مُخاضَۃً ہٗ: سے بیع بالعوض کرنا۔

٣۔ الخَضَض: بیہودہ گفتگو (کہا جاتا ہے: منطقٌ خَضَضٌ: غلط منطق) طرح طرح کے کھانے۔ الخَضاض: روشنائی، قیدی کی بیڑی، کتے یا بلی وغیرہ کے گلے کا پٹہ۔ رجلٌ خَضاضٌ وخَضاضَۃٌ: احمق مرد۔ مکانٌ خَضِیضٌ: پانی سے تر جگہ۔

٤۔ خَضْخَضَ الماءَ و نحوہٗ خَضْخَضَۃً فتخضخض: پانی وغیرہ کو ہلانا (نتیجہ میں) پانی وغیرہ کا ہلنا۔ الخُضاخِض من الاماکن: بہت درختوں اور پانی والی جگہ، موٹا، بڑے پیٹ والا آدمی۔ ــوالخُضْخُض: پچھوائی اور پروائی کے درمیان کی ہوا۔

○ خَضَّ خَضًّا ہ: کو ہلانا، ہچکولے دینا، جھنجھوڑنا، دھکا دینا، ہلا دینا، ٹھیلنا، ــہ: ڈرانا خوف زدہ کرنا، وحشت زدہ کرنا، ڈرا کر بھگا دینا۔ لبنٌ خَضٌّ: مکھن نکلا دودھ۔ خَضَّۃ: چوٹ، ٹکر، صدمہ، دھکا، ہچکولا، دھچکا، ہول، دہشت، دفعۃً پیدا ہونے والا خوف، خوف۔

خضب ا۔ خَضَبَ ِ خَضْبًا و خَضَّبَ الشیءَ: کو رنگنا۔ تخضّب و اِخْتَضَب بالحِنّاء: رنگدار ہونا، رنگین ہونا صفت: خَضِیب جمع خُضُب و مَخضُوب و مُخَضَّب۔ الخِضاب: رنگ۔ الخُضَبَۃ: بہت مہندی لگانے والی عورت۔ الخَضِیب: رنگا ہوا۔ کہا جاتا ہے: کفٌّ خَضِیبٌ و امرأۃ خضیب: مہندی لگی ہتھیلی، خضاب لگانے والی عورت۔ المِخْضَب: کپڑے دھونے یا رنگنے کا برتن، لگن۔

٢۔ خَضَبَ ِ وخَضِبَ ـ خُضُوبًا وخُضِب و اَخْضَبَ الشجرُ او المکانُ: درخت یا جگہ کا سرسبز ہونا۔ اخضَوْضَبَ اِخْضِیضابًا الشجرُ: درخت کا سرسبز ہونا۔ الخَضْب جمع خُضُوب: درخت کی سرسبزی، بارش کے بعد نیا اگا ہوا سبزہ (ر) کلوروفل (Chlorophyll): پودوں میں سبز مادہ جو سورج سے روشنی جذب کرتا ہے اور پودوں کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ الخُضُوب: بارش کے بعد نیا اگا ہوا سبزہ۔

○ خَضَبَ ِ خَضْبًا ہ: کو رنگنا، خَضَبَ ِ و خَضِبَ ـ خُضُوبًا: پودے کا سرسبز ہونا ہرا ہو جانا۔ خَضَّبَ ہ: کو رنگنا۔ اخضَوْضَبَ: پودے کا سرسبز ہونا یا ہو جانا۔ خِضاب: رنگ، جس سے رنگ تیار کیا جائے۔ خون میں سرخ مادہ جو آکسیجن کا حامل اور لوہے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسے انگریزی میں ہائمو گلوبن haemo globin کہا جاتا ہے۔ خُضُوب: سبزی، روئیدگی ہرا پن، ہرا رنگ۔ خَضِیب: رنگا ہوا۔ خَضْخَضَ خَضْخَضَۃً ہ: کو ہلانا، چلانا، الٹ دینا، ہلانا جلانا، جھونکے دینا پینگ دینا۔

خضد ا۔ خَضَدَ ِ خَضْدًا العودَ: لکڑی کو بغیر جدا کئے توڑنا، توڑے بغیر موڑنا۔ ــالشجر: درخت کے کانٹے دور کرنا۔ خَضَّدَہٗ: کو کاٹنا۔ تَخَضَّدَ العودُ: لکڑی کا ٹوٹنا۔ انْخَضَدَ: لکڑی کا ٹوٹنا۔ ــت الثمارُ: پھلوں کا پارا پارا ہونا۔ الخَضَد: کٹی یا ٹوٹی ہوئی لکڑی۔ ــوالخُضاد: اعضاء میں ہونے والا درد۔ خَضَدُ البَدَن: کاہلی کے ساتھ بدن کا ٹوٹنا درد کرنا۔ ــالسفر: سفر کی تھکن، تکان۔ الخَضِد والمَخْضُود: اٹھنے سے عاجز، کمزور۔ رجلٌ مَخْضُود: دلیل سے عاجز آدمی۔ الاَخْضَد والمُتَخَضِّد: خمدار، جھکا ہوا، ٹوٹا ہوا۔

٢۔ خَضَدَ ِ خَضْدًا الرجلُ: کوئی تر چیز کھانا جیسے گاجر، ککڑی وغیرہ۔ المِخْضَد: بہت کھانے والا۔

٣۔ الخَضَد: پھلوں کی پژمردگی، نباتات کی کمزوری۔

○ خَضَدَ ِ خَضْدًا ہ: (کانٹوں) کو کاٹ ڈالنا، توڑ ڈالنا۔ خَضَدَ شوکتَہٗ: کو مطیع کرنا، کو قابو سے نکلنے نہ دینا، کی طاقت کو قابو میں رکھنا۔

خضر: ا-خَضِرَ - خَضَرًا: سبز ہونا، ہرا ہونا۔ -الزرعُ: کھیتی کا سرسبز و شاداب ہونا-خَضَّرَ الشیءَ: کو سبز کرنا- خَاضَرَ مُخَاضَرَۃً: کو پکنے سے پہلے سبز پھل فروخت کر دینا-خُضِّرَ الریُّ النباتَ: آبیاری کا پودوں کو سبز و شاداب کر دینا۔ اِخْضَرَّ و اِخْضَوضَرَ: سبز ہونا، ہرا ہونا-اِخْتَضَرَ الفاکِہَۃَ: سبز کچا پھل کھانا-العشبَ: سبز گھاس کاٹنا-اُخْتُضِرَ: نوجوان مرنا-الشیءُ: چیز کا تازہ لیا جانا-الخَضِر: سبز، ہرا، ٹہنی، کھیتی (ن): سبز ترکاری، بہت سرسبز و شاداب جگہ-الخَضَار (ز): نئی سبزی-الخَضِیر: سبز، سبز ترکاری-الخُضْرَۃ جمع خُضَر و خُضَر: ہرا رنگ (ز) سبز ترکاری، نرمی و تازگی۔ کہا جاتا ہے غصنٌ فیہ خُضرۃ: نرم و تازہ ٹہنی خُضرۃ الدِمَن: وہ سبزہ جو کوڑے کرکٹ پر اگ آتا ہے، جس کا ظاہر اچھا اور باطن برا ہو، اس کے لئے یہ بطور کنایہ استعمال ہوتا ہے-الأَخْضَر: سبز، ہرا۔ الأَخْضَرَان: گھاس اور درخت مریجرف الاخضرین: وہ گھاس اور درخت بہالیجاتا ہے (یہ بات ڈرانے کے لئے کی جاتی ہے)-الخَضْرَاء جمع خَضْرَاوَات: الاخضر کا مؤنث: سبز ہری۔ القُبَّۃ الخَضْرَاء: آسمان-الخَضَّار: سبزی فروش-الخُضَارَۃ: سبز ترکاریاں-الأُخَیْضَر (ح) سبز مکھی-المَخْضَرَۃ: سرسبز جگہ-الخُضَارِیّ والخُضَرِیّ جمع خَضَارِیّ (ح): سبزی مائل زرد رنگ کا ایک پرندہ جس کو الأُخَیل بھی کہتے ہیں۔

۲-خَضَرَ - خَضْرًا النخلَ: کھجور کے درخت کو کاٹنا۔

۳-اِخْضَرَّ اللیلُ: رات کا سیاہ ہونا، تاریک ہونا۔

۴-الخُضْرَۃ فی الوان الناس: گندم گوئی -- فی الوان الابل والخیل: نیلا پن جس میں سیاہی ملی ہوئی ہو-الخَضَار: دودھ جس میں پانی کا بہت حصہ ہو-خَضْرَاءُ القوم: قوم کا بڑا حصہ-الأَخَاضِر: سونا، گوشت، شراب-الأُخَیْضَر (طب): آنکھ کی ایک بیماری۔

۵-خَضْرَمَ الأُذُنَ: کان کا کچھ حصہ کاٹ لینا-ناقۃٌ مُخَضْرَمَۃٌ: وہ اونٹنی جس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو۔

۶-الخِضْرِم: بہت پانی والا کنواں، بہت بڑا سمندر، کہا جاتا ہے بحرٌ خِضْرِمٌ: بہت پانی والا سمندر-رجلٌ خِضْرِمٌ: بہت داد و دہش کرنے والا آدمی۔- جمع خِضْرِمون و خَضَارِم و خَضَارِمۃ و الخُضَارِم: فیاض مفلسوں کو جھیلنے والا سردار-الخُضْرُم: میٹھے اور کھاری کے درمیان کا پانی (ح): گوہ کا بچہ۔ المُخَضْرَمُ: غیر مختون وہ سیاہ فام جس کا باپ سفید فام ہو، گھٹیا نسب، بے پالک، جس نے جاہلیت اور اسلام کے زمانے دیکھے ہوں۔ ہم کہتے ہیں شاعرٌ مُخَضْرَمٌ: وہ شاعر جس نے جاہلیت اور اسلام کے زمانوں میں شاعری کی ہو-ماءٌ مُخَضْرَم: میٹھے اور کھاری پانی کے درمیان کا پانی۔

○خَضِرَ - خَضَرًا: ہرا ہونا، سبز ہونا، سرسبز ہونا، شاداب ہونا، ہرا بھرا ہونا، تر و تازہ ہونا-خَضَّرَہٗ: کو ہرا، سبز کرنا، ہرا بھرا کرنا، سرسبز و شاداب کرنا کو ہرا رنگنا، سبز رنگ دینا-خَضَّرَ الارضَ: زمین بونا، زمین میں تخم ریزی کرنا، زمین جوتنا، کاشت کرنا زمین میں ہل چلانا، کھیتی باڑی کرنا-اِخْضَرَّ: سبز ہونا یا ہو جانا سرسبز و شاداب ہونا یا ہو جانا، تر و تازہ ہونا یا ہو جانا۔ اِخْضَوضَرَ: بمعنی اِخْضَرَّ، خَضِر: ہرا، سبز، سرسبز، شاداب، تر و تازہ، ہرا بھرا۔ لہلہاتا ہوا، کچا، خام، ہریاول، سبزی، تر و تازگی، ہریالی، روئیدگی، ہری بھری فصل-الخَضِر والخِضْر: ایک مشہور داستانوی انسان-خُضْرَۃ: سبزی، ساگ پات روئیدگی، ہرا پن، سبز رنگ جمع خُضَر: روئیدگی، بالیدگی، نباتات، سبزی، ہریاول، تر و تازگی، ہریالی، ترکاری، چراگاہ، گھاس والا قطعہ زمین-خُضَر: نباتات، ترکاریاں۔ خُضَرِی: سبزی والا، کنجڑا-خَضَار: سبزی، ترکاری روئیدگی، ہرا پن، سبز رنگ، سبزیاں، ترکاریاں، جڑی بوٹیاں-خَضِیر: سبز، ہرا- خُضَارَۃ: سبزیاں، ترکاریاں، جڑی بوٹیاں۔ خَضَّار: سبزی والا، کنجڑا-اَخْضَر مؤنث خضراء جمع خُضْر: سبز، ہرا-اَتیٰ علی الأَخْضَر والیابِس: ہر چیز تباہ و برباد کر دینا کو سخت نقصان پہنچانا-الخَضْرَاء: تیونس کا لقب، آسمان-خَضْرَاوَات: سبزیاں، ترکاریاں، جڑی بوٹیاں-الخُضَیْرَاء: بہشت جنت۔ -یَخْضُور: کلوروفل Chlrophyle-خِضْرِم جمع خَضَارِم: وافر، بہت سا، کثیر، خوب آبپاشی کیا ہوا، اچھی طرح پانی دیا ہوا، بہت پانی والا، سخی، فیاض، داتا، حاتم دریا دل، کشادہ دل، آزاد نفس، آزاد خیال، حریت پسند، مُخَضْرَم: جاہلیت اور اسلام میں نبی کریم ﷺ کے معاصرین، خصوصاً شعراء، ایسا بوڑھا شخص جو چند نسلوں یا تاریخی ادوار میں رہا ہو۔

خضع: ا-خَضَعَ - خُضُوعًا و خَضَعًا و خُضُعَانًا: عاجزی کرنا، تواضع کرنا، فروتن ہونا، سرفگندہ ہونا صفت: خَاضِع جمع خُضَّع و خُضُوع جمع خُضُع-الرجلَ: کو ساکن کر دینا-لہ: کا تابع و فرمانبردار ہونا-خَضِعَ - خَضَعًا الرجلُ: جھکا ہوا ہونا صفت أَخْضَع مؤنث خَضْعَاء- خَضَّعَہٗ: کو عاجز و مطیع کرنا-خَاضَعَہٗ: سے نرم و ملائم گفتگو کرنا-أَخْضَعَ: عاجزی کرنا-ہٗ: کو عاجز کرنا کہا جاتا ہے أَخْضَعَتْنِی اِلیکَ الحَاجَۃُ: حاجت نے مجھ کو تمہارے سامنے عاجز و فروتن بنا دیا-الکِبَرُ فلانًا: کو بڑھاپے کا جھکا دینا، خمیدہ، گردن بنا دینا۔ تَخَضَّعَ و اِخْضَوضَعَ: عاجز بننا، بناوٹی خاکساری ظاہر کرنا-اِخْتَضَعَ: عاجز ہونا-الصقرُ: شکرے کا اپنے شکار پر جھپٹنے کے لئے اپنا سر جھکانا-الخَضَع (مص): گردن کی پیدائشی پستی-الخُضَعَۃ جمع خُضَع: ہر ایک کا مطیع، اپنے ہمسروں کو مطیع کرنے والا-الأَخْضَع: ذلت پر راضی، دبی ہوئی گردن والا-الخَضْعَۃ و الخَضَعَۃ و الخَضَعَۃ: تلواریں، کوڑے، تلواروں یا کوڑوں کے پڑنے کی آواز۔ کہا جاتا ہے سمعتُ للسیاط خضعۃً: میں نے کوڑوں کے پڑنے کی آواز سنی-الخَیْضَع من الرجال: ذلت پر راضی ہونے والا آدمی۔

۲-خَضَعَ - خُضُوعًا و خَضْعًا و خُضُعَانًا النجمُ: ستارے کا غروب ہونے کے لئے جھکنا یا غروب ہونے کے قریب ہونا۔

۳-خَضَّعَ اللحمَ: گوشت کاٹنا۔

۴-اِخْتَضَعَ فی سیرہ: تیز چلنا۔

۵-الخَضِیعَۃ: جانور کے پیٹ میں سنی جانے والی آواز، سیلاب کی آواز-الخَیْضَعَۃ: لڑائی کی آواز، شور، میدان جنگ اور اس سے اٹھنے والا گرد و غبار۔

○خَضَعَ - خُضُوعًا لِ: کے آگے سر تسلیم خم کرنا، کی اطاعت اختیار کرنا، فرمانبرداری کرنا، کے آگے سپر انداز ہونا، ہتھیار ڈال دینا، کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک جانا، کے سامنے خاکساری کرنا، کا (حکم) ماننا (حکم کی) تعمیل کرنا، کی فرمانبرداری کرنا-ل اور اِلی: (قانون وغیرہ) کا تابع ہونا کے زیر کنٹرول ہونا-خَضَّعَ و اَخْضَعَہٗ: کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، زیر نگین کرنا، قابو میں کرنا، ذلیل کرنا-ہ ل / ہ ل: کسی کو کے حوالے کرنا، کسی چیز کو کے پیش کرنا، کو کا محکوم بنانا کو کے زیر نگین کرنا، خُضُوع: فرمانبرداری، اطاعت، تعمیل ارشاد، ذلت، پستی، عاجزی، عجز و انکسار، زیر ہونا-خَضُوع جمع خُضُع: فرمانبردار، اطاعت شعار، عاجز، خاکسار، منکسر المزاج-اِخْضَاع: زیر کرنا، تسخیر، محکوم بنانا، تابعداری، محکومی-خَاضِع جمع خُضَّع و

خُضعَان و خِضعان: اطاعت گزار، فرمانبردار، فروتن، خاکسار، منکسر المزاج، متحمل المزاج، لچک دار، نرم، ملائم، قسم کھانے والا، جھکنے والا اثر پذیر، اطاعت پذیر، مطیع ۔ـِ لِ: کا مستوجب، کا امکان رکھنے والا، کی شرط پر، بشرط، بہ امید۔

خصف: خَصَفَ ـِ خَصَافًا و خَصْفًا: گوز کرنا صفت خَصِیف و خَصُوف و خَصَّاف۔

خضل: ۱۔خَضِلَ ـَ خَضَلًا و أَخْضَلَ و اخْضَلَّ و اِخْضَوْضَلَ: تر ہونا، نمناک ہونا۔ صفت خَضِل و خَاضِل خَوَاضِل۔ خَضَّلَ و أَخْضَلَ الشیءَ: کوتر کرنا، نمناک کرنا۔ اِخْضَال واخْضِلَال: تر ہو[illegible] غمناک ہونا۔ ـالشجرُ: درخت کا بہت ٹہنیو[illegible] پتوں والا ہونا۔ الخَضِل: تر، گیلا، نم، مرطوب جاتا ہے عَیش خَضِل: عمد[illegible] شِواءٌ خَضِلٌ: اچھی طرح بھنا۔ سِنَانٌ خَضِلٌ: خون سے تر نیزہ۔ الخُضْلَة: [illegible] تازگی، تری، نمی، رطوبت، آسودگی، زندگی کا آرام، نازک عورت۔ یوم خَضِلَة: خوشی وراحت کا دن۔ الخَضِیلَة: سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا باغ (پانی کے قریب ہونے وجہ سے)۔ المُخْضِل و المُخْضَل: آسودہ زندگی والا۔

۲۔الخَضْل (واحد خَضْلَة) و الخَضَل: صاف موتی، ایک قسم کے مہرے۔

خَضِلَ ـَ خَضَلًا: نم، تر، گیلا یا مرطوب ہونا، یا ہو جانا۔ خَضَّلَ و اخْضَلَ ہ: کوتر کرنا، گیلا کرنا، نم کرنا، مرطوب کرنا۔ اخْضَلَ: نم، تر، گیلا یا مرطوب ہونا یا ہو جانا۔ خَضِل: مرطوب، نم، تر، گیلا، رسیلا، رس دار، رس بھرا، شیرے دار شاداب، پر لطف، فرحت بخش، خوش کن، مسرور، شادان، خوش، خوش مزاج، زندہ دل، خوش دل۔

خضم: ۱۔خَضَمَ ـِ خَضْمًا و اخْتَضَمَ الشیءَ: کو کاٹنا۔ المِخْضَم: تیز کرنے کی سلی۔ ـمن السیوف: کاٹنے والی تلوار۔

۲۔خَضَمَ ـِ و خَضِمَ ـَ خَضْمًا الطعامَ: کو کھانا، پچھلی داڑھوں سے کھانا۔ الخُضَام و الخُضَامَة: پچھلی داڑھوں سے کھائی جانے والی چیز۔ الخَضِیمَة: سبز نباتات، بہت نباتات والی زمین۔

۳۔خَضَمَ ـِ خَضْمًا و اخْتَضَمَ له من ماله: کو اپنے مال میں سے دینا۔ اخْضَمَ له فی العطاء: کو زیادہ دینا، زیادہ بخشنا، عطا کرنا۔ الخِضَمّ: بڑا سمندر، سردار، بڑا، فیاض سخی (عورت کی صفت میں یہ نہیں آتا)، بڑا گروہ۔

۴۔المُخْضَم و المُخَضَّم: آسودہ زندگی گزارنے والا۔ الخُضُمَّة: درمیان، چیز کا بڑا حصہ۔

خَضَمَ ـِ خَضْمًا ہ: کوئی چیز پورے منہ سے چبانا، چبا کر کھانا، کو دانتوں سے چیر ڈالنا۔ خِضَمّ: وسیع (سمندر) سمندر، بڑا سمندر، بحر۔

خط: ۱۔خَطَّ ـُ خَطًّا بالقلم: قلم سے لکھنا۔ ـالشیءَ: [illegible] ـعلی الشیء: پر نشان لگانا۔ ـت الریاحُ الرملَ: ہوا کا ریت پر [illegible] ـفی الارض: زمین پر لکیر کھینچنا۔ کہا جا[illegible] حساراہ فما خط غبارہ: اس نے اس کا [illegible] گرد کو بھی نہیں پہنچا۔ فلانٌ یَخُطّ فی الارض: فلاں شخص اپنے معاملہ میں سوچ بچار کر رہا ہے۔ ـالخِطَّةَ لنفسہ: اس نے زمین کا ٹکڑا نشان لگا کر اپنے لئے مخصوص کر لیا۔ خَطَّطَ: لکیریں کھینچنا۔ ـالخطوطَ: نقوش بنانا۔ ـالبلادَ: ملک کے حدود مقرر کرنا۔ اِختطَّ الوجهُ او غیرہ: چہرے وغیرہ پر جھریاں پڑ جانا۔ ـالارضَ او الدارَ: زمین یا گھر کی حد بندی کرنا۔ خِطَّةً: زمین کا ٹکڑا اپنے لئے مخصوص کرنا، معین کرنا اور اس پر علامت لگانا۔ الخَطّاط جمع خَطّاط: جادوگر۔ الخَطّ: راستہ، سڑک، شاہراہ۔ الخَطّ جمع خُطُوط: تحریر، کتابت، لمبا راستہ۔ محلہ۔ (ہ): لکیر، خط، سیدھی لکیر کے معنی میں بکثرت مستعمل ہے۔ لکیر کی مختلف قسمیں ہیں۔ جیسے: خط مستقیم، خط نصف مستقیم خط منحنی، خط منکسر، خط منحنی، خط مغلق، خط مفتوح، خط منکسر محدب، خط منکسر مقعر۔ خط الاستواء او الاعتدال (فلک): وہ خیالی اور موہوم خط جو زمین کو دو برابر کے شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اسے خط الاستواء السماوی یا الفلک المستقیم یا معدل النہار بھی کہتے ہیں۔ خطّ المسری (اع): آتشی اسلحہ کے دہانے سے چلنے سے نشانہ تک پہنچنے تک چلنے کی گولیوں یا گولوں وغیرہ کی بنائی ہوئی لکیر۔ خط یا دائرہ نصف النہار یا خط زوال یا خط الهاجرة: خط نصف النہار، (سورج یا ستارے کا) نقطہ عروج۔ خُطُوط الکفّ: ہاتھ کی لکیریں۔ الخِطّ و الخِطَّة جمع خِطَط: آبادکاری کی سب سے پہلی مقبوضہ زمین زمین کا وہ ٹکڑا جو کوئی اپنے واسطے مخصوص کرے۔ الخُطَّة جمع خُطَط: کام۔ (کہا جاتا ہے تلک خُطَّةٌ لیست من بالی: یہ کام میری شان کا نہیں۔ فی رأسه خُطَّة: اس کے دماغ میں کوئی خیال ہے) مشکل معاملہ جس کا کوئی حل نہ سوجھے۔ کہا جاتا ہے فلانٌ یبنی خُطَط المکارم: فلاں شخص کرم و بزرگی کے مدارج کی بنیاد قائم کرتا ہے۔ المِخَطّ: کپڑے پر نشان کرنے کے لئے جلا ہے کی لکڑی۔ الخَطُوط: زمین پر پاؤں کے نشان چھوڑنے والا، عورت کے ابرو رنگنے کا طلا۔ المِخْطَاط: بہت لکھنے والا، خوش نویس۔ المُخَطَّط: دھاری دار۔

۲۔خَطَّ ـُ خَطًّا الغلامُ: لڑکے کے چہرے پر سبزہ آنا۔ ـعِذارُہ: کے رخساروں پر بال نکلنا۔ اِختطَّ الغلامُ: لڑکے کے چہرے پر سبزہ اگنا، آنا۔

۳۔خَطَّ ـُ خَطًّا القبرَ: قبر کھودنا۔

۴۔خَطَّ ـُ خَطًّا الطعامَ و فی الطعام: کھانا تھوڑا سا کھانا۔

۵۔خَطَّ ـُ خَطًّا فی نومہ: نیند میں خراٹے لینا۔

۶۔الخُطّ و الخَطّ: محلّہ۔ الخُطَّة جمع خُطَط: جہالت، خصلت۔ الخَطِّی جمع خَطِّیَّة: "خطّ" مقام کا نیزہ۔ خط بحرین کی بندرگاہ پر واقع ہے، جہاں نیزے بکتے ہیں۔ المُخَطَّط: خوبصورت۔

خَطَّ ـُ خَطًّا علی: پر لکیر لگانا۔ ـہ: کی تصویر کھینچنا، کا خاکہ کھینچنا، کا خاکہ بنانا، کا خاکہ، نقشہ یا ڈیزائن تیار کرنا۔ ـہ: کچھ لکھنا، پر کندہ کاری کرنا، پر کندہ کرنا، کھودنا، نقش کرنا، پر گہرے نقوش چھوڑنا۔ ـہ ل: کے لئے مختصر طور پر یا مختصراً کچھ بیان کرنا، نشان لگانا، کا خاکہ کھینچنا، کچھ مقرر کرنا۔ خَطَّ خَطًّا (سطرًا): لکیر کھینچنا۔ خَطَّہ الشیبُ: کے بال سفید ہو جانا۔ خَطَّطَ: لکیریں کھینچنا۔ ـہ: چٹی سے لکیر کھینچنا، میں لیک ڈالنا، مینڈھ بنانا، پر لکیریں یا دھاریاں ڈالنا، کو دھاریدار بنانا، پنسل سے (بھویں) بنانا، کو معین کرنا، کی تخصیص کرنا، کو مخصوص کرنا، ظاہر کرنا۔ زمین وغیرہ) کی حد بندی کرنا، حد باندھنا، حد مقرر کرنا، سرحد مقرر کرنا، کا خاکہ بنانا، نقشہ کھینچنا، کھمبوں کی باڑ لگا کر الگ کرنا، کی مساحت کرنا، (سڑکوں) کا منصوبہ بنانا، کی تفصیلات تیار کرنا۔ اِختطّ ہ: (راستہ) مقرر کرنا، کا خاکہ کھینچنا، کی ٹھیک جگہ ظاہر کرنا، کی حد بندی کرنا، حد باندھنا، حد مقرر کرنا، سرحد مقرر کرنا، (شہر کی تعمیر کا) منصوبہ بنانا، کی منصوبہ بندی کرنا (منصوبہ) بنانا، کا خاکہ، نقشہ یا ڈیزائن تیار کرنا، کی تدبیر کرنا کا منصوبہ بنانا، کے لئے منصوبے بنانا۔ خَطّ جمع خُطُوط: خط، لکیر، لائن جنبش، دھاری، (ریلوے) لائن، محاذ، محاذ جنگ، لیک، لکیر، باہن، ہلائی، (باہن کی) مینڈ، تحریر، لکھائی، دستی تحریر، کتابت، خوش خطی، خوش نویسی،

خط۔ خط أرضی: گراؤنڈ وائرالخط الِاسْفِینی: خط میخی، خط پیکانی۔ الخطوط الأمامیة: اگلی صفیں، جنگی صفیں۔ خط تلیفونی: ٹیلیفون لائن۔ خطوط جَوِّیَة: ہوائی راستے، ادارہ طیران (air lines): خط سِکَّةِ الحدید: (ریلوے) لائن، پٹڑی۔ خط الزوال وخط نصف النهار: خط نصف النہار، (سورج یا ستارے کا) نقطۂ عروج۔ الخط المسماری: خط میخی، خط پیکانی۔ خط الاستواء: خط استواء، خط الطُول یا خط طُولِی: طول بلد کا دائرہ، طول البلد۔ خط العَرْض یا خط عَرْضِی: عرض البلد، خط عرض البلد۔ خط تقسیم المیاه: دو دریائی نظاموں کو جدا کرنے والا پہاڑی فاصل، پن دھارا، فاصل آب۔ خطُّ القُوَّةِ الکَهْرَبَائِیة: برقی طاقت کی لائینیں۔ خط الهاجرة: خط نصف النہار۔ خَرَجَ عَنِ الخطِّ: (ٹرین کا) پٹڑی سے اتر جانا۔ عَلی خط مستقیم: سیدھی لائن میں، اک دم، اسی وقت، فوراً، ترت، بلا توقف، قطعی طور پر، تمام تر، کھلم کھلا، بے حد، سربسر، پورا پورا، بالکل۔ علی طول الخط: ہر مرحلہ پر۔ خُطّ: محلّہ، شہر کا ایک حصہ۔ خَطِّی: ہاتھ کا لکھا ہوا، نیزہ، سیدھی لکیریں، سیدھی لکیروں کا۔ خُطَّة: معاملہ، حالت، عہدہ، کام، مقام۔ خِطَّة و خُطَّة جمع خِطَط و خُطَط: قطعہ زمین جو مکان کی تعمیر کے لئے حاصل کیا گیا ہو، قطعہ، ٹکڑا (غیر منقولہ جائیداد کا)۔ ضلع، غیر منقولہ جائیداد کا قطعہ کا نقشہ یا خاکہ یا منصوبہ، ترتیب، منصوبہ، نقشہ، ڈیزائن، ادارہ، طریق عمل، پالیسی، قاعدہ، اصول اخلاق، راستہ، راہ، رہنما اصول خُطَّة العمل: عمل کا منصوبہ کام کا منصوبہ۔ طِبْقًا لِخُطَّةٍ مَرْسُومَة: منصوبے کے مطابق۔ خَطَّاط جمع خَطَّاطُون: خوش نویس، نقش پا چھوڑنے والا۔ فَشَك خَطَّاطٌ یا قَذِیْفَة خَطَّاطَة: گولہ یا گولی جس کا راستہ دھوئیں کی لکیر سے جو پیچھے چھوڑ جاتی ہے نظر آتا ہے۔ رسم تخطیطی: پہلا خاکہ، ڈیزائن، ابتدائی مسودہ۔ مَخْطُوط: ہاتھ کا لکھا ہوا مسودہ۔ مَخْطُوطَة جمع مخطوطات: مسودہ۔ مُخَطَّط: دھاریدار، پٹی سے کھینچی ہوئی (لکیر)، لیک ڈلا ہوا، تیار کیا ہوا (خاکہ، نقشہ، ڈیزائن) نشان لگا ہوا، الگ کیا ہوا، الگ کیا ہوا، مخصوص کیا ہوا، معین کیا ہوا۔ منصوبہ بندی کیا ہوا، رہنمائی کیا ہوا، کنٹرول کیا ہوا جمع مخططات: خاکہ، ڈیزائن، نقشہ، منصوبہ، (شہر کا) نقشہ۔

خطی: ا۔ خَطِئَ - خَطَأً: غلطی کرنا۔ أخطأ۔ إخْطاءً وخَاطِئَةً الرامی الغرض: تیرانداز کا نشانہ خطا کرنا تیرانداز کا تیر نشانہ پر نہ لگنا۔ - فی عمله: کام میں صحیح راستہ سے ہٹ جانا۔ - الطریق: راستہ سے بھٹک جانا تَخَطَّأ له فی المسئلة وبها: کی غلطی ڈھونڈنے کے درپے ہونا۔ - وتَخَاطَأَ السهمُ الرمیة: تیر کا نشانہ سے آگے نکل جانا، نشانہ پر نہ لگنا، نشانہ خطا کرنا۔ الخَطَأ والخَطَاء: غلطی۔ الخطا جمع أخْطَاء: غلطی۔ - المُطلَق (ع ا): اصلی قیمت اور لگ بھگ قیمت کا فرق۔ - النسبیّ: اصلی قیمت سے اصلی قیمت اور لگ بھگ قیمت کے فرق کی نسبت۔ حساب الأخطاء: اصلی قیمتوں کی لگ بھگ قیمتوں میں منتقلی کی صورت میں ہونے والی غلطیوں پر بحث کی قسم۔

۲۔ خَطِیَ - خَطأً فی دِیْنِهِ: دین میں قصداً یا بلا قصد غلط راستہ پر چلنا۔ - خِطأً و خِطأةً: گناہ کرنا، قصور کرنا۔ صفت: خاطِئ جمع خَطأ و خِطأة: گناہ کرنا، قصور کرنا صفت خاطئ جمع خطأة مونث خاطِئة جمع خَطأة م خاطِئة ج خواطی۔ خَطَّأ تخطِئًا و تَخْطِئَةً: کی غلطی کی طرف نسبت کرنا کو کہنا کہ تو نے غلطی کی ہے۔ أخْطَأ إخْطاءً و خَاطِئَةً: غلطی کرنا۔ - الرجلَ: کو غلطی میں ڈالنا۔ تَخَطَّأ و تَخَاطَأ: غلطی کرنا۔ -ہ: کو غلطی میں ڈالنا۔ الخِطْء: گناہ۔ الخَطْءُ الخَطَأ و الخَطَاء: گناہ، بعض کے نزدیک غیر ارادی گناہ۔ الخَطَّاء: بہت غلطی کرنے والا۔ الخَطِیئَة جمع خَطَایا و خَطِیئَات: گناہ، بعض کے نزدیک ارادی گناہ۔

۳۔ خَطَأ - خَطَأَتِ القِدرُ بزبدها: ہانڈی کا جھاگ پھینکنا۔

○ خَطِئَ - خَطَأً: غلطی پر ہونا، غلطی کرنا، غلطی کا ارتکاب کرنا، گناہ کرنا۔ خَطَّأه: پر تقصیر، جرم بدعنوانی، خلاف ورزی یا جارحانہ عمل کا الزام لگانا یا سے متہم کرنا، کو ملزم ٹھہرانا، پر الزام لگانا، الزام میں ماخوذ کرنا، کو قصور وار یا مجرم قرار دینا، کو بھول چوک غلطی، فروگزاشت یا سہو سے متہم کرنا، پر جرمانہ کرنا۔ أخْطَأ فی: میں غلطی پر ہونا، غلط ہونا، فروگزاشت، بھول چوک کا ارتکاب کرنا، کے بارے میں غلط ہونا، غلطی کرنا۔ -ہ: پر گولی وغیرہ کا نہ لگ سکنا۔ -ہ: نشانہ پر نہ لگ سکنا (گولی وغیرہ کا) -ہ: کے ذہن سے نکل جانا۔ أخْطَأ فَأْلُهُ: کی توقعات پوری نہ ہونا، کا کسی جگہ غلطی پر ہونا، کا کسی جگہ غلطی کر دینا۔ أخْطَأهُ الشیٔ: کسی چیز کو نہ رکھنا، کسی چیز سے محروم ہونا، قاصر ہونا، کسی چیز کا محتاج ہونا۔ أخْطَأهُ التوفیق: وہ ناکام ہو گیا۔ أخْطَأ فی استنتاجاته: اس نے غلط نتائج اخذ کر لئے۔ أخْطَأ بَیْنَ الشیئین: اس نے دو چیزوں میں گڈمڈ کر دی۔ وہ غلطی سے ایک چیز دوسری سمجھ بیٹھا۔ خِطْءٌ: لغزش، فروگزاشت ذرا سی غلطی، بھول، سہو، غلطی، خطا، قصور، جرم خلاف ورزی، گناہ۔ خَطَأ وخَطَاء: بھول چوک، سہو فروگزاشت، غلطی، نقص، نادرستی، جرم، تقصیر، خطا، بدعنوانی، خلاف ورزی، جارحانہ عمل، کوتاہی، غفلت، غلط کام۔ خَطَأً: غلطی سے، غلط طور پر من الخطاء ان: یہ غلط ہے کہ، یہ غلط ہوگا کہ۔ اصلاح الخطاء: غلطی نامہ، صحت نامہ، فہرست جو کتاب کے آخر میں غلطیوں کے صحت نامہ کے طور پر لگائی جاتی ہے۔ قتلُ الخطا: اتفاقی قتل۔ خَطِیئَة جمع خطیئات وخَطَایا: غلطی، فاش غلطی، لغزش، بھول چوک، سہو، قصور، ظلم، جرم، بدعنوانی، خلاف ورزی، جارحانہ عمل، گناہ، جرمانہ، خَاطِئ: غلط، غیر صحیح نادرست، غلطی پر، غلط فہمی پر مبنی، جمع خُطَاة مؤنث خاطِئَة جمع خَوَاطِئ: گناہ گار، مُخْطِئ: غلطی پر، غلط، غیر صحیح، نادرست۔

خطب: ا۔ خَطَبَ - خُطْبَةً و خَطْبًا و خَطَابَةً: وعظ کہنا حاضرین کے روبرو خطبہ پڑھنا۔ کہا جاتا ہے: خطب القومَ وفی القوم: اس نے قوم کو خطاب کیا، ان کے سامنے تقریر کی۔ خَطُبَ - خَطَابَةً: واعظ ہونا، خطیب ہونا، مقرر ہونا۔ خَاطَبَ خِطَابًا و مُخَاطَبَةً ہُ: باہم گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے: خاطَبَهُ فی فلان: اس نے اس سے فلاں شخص کے متعلق بات چیت کی۔ تَخَاطَبَا: باہم گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ اِخْتَطَبَ علی المنبر: منبر پر خطبہ دینا۔ الخِطَاب: گفتگو (فَصْلُ الخطاب: خطیب کا الحمدللہ کے بعد (''اما بعد'' کہنا) فصاحت۔ الخُطْبَة: تقریر، وعظ، گفتگو۔ الخَطِیب جمع خُطَبَاء: خطبہ پڑھنے والا۔ کہا جاتا ہے: رجل خطیبٌ: خوش بیان واعظ۔ الأخْطَبَ: خطابت کا اسم تفضیل جس طرح کتابت سے اکتب اور شعر سے اشْعَر۔ کہا جاتا ہے: کان أخْطَبَ اهلِ زمانه: وہ اپنے زمانہ کا بہترین مقرر اور واعظ تھا۔ اسی سے ہے: اخطبُ سحبان وائل: سحبان وائل سے زیادہ خطیب۔ سحبان قبیلہ باہلہ کا نہایت بلند پایہ فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب تھا۔ الخَطَّاب: بہت وعظ اور تقریر کرنے والا۔ الخَطَّابَة: بہت تقریر کرنے والا یا کرنے والی۔

۲۔ خَطَبَ - خَطْبًا و خِطْبَةً و خِطِّیبَی الفَتَاةَ: لڑکی

سے منگنی کرنا صفت: خاطب۔ کہا جاتا ہے۔ خطب الفتاة علی فلان: اس نے لڑکی کی فلاں سے منگنی کی۔ اس نے لڑکی کو فلاں کی منگیتر بنایا۔ اِختَطَبَ الفَتَاةَ: لڑکی سے منگنی کرنا۔ –القومُ فلانًا: قوم کا اپنی کسی لڑکی سے کسی شخص کی منگنی کرنا۔ الخاطِب جمع خُطَبَاء (فا) شادی کا امیدوار، رشتہ کرانے والا کہا جاتا ہے: ارسلته خاطِبًا فتزوج: یہ مثل اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جسے کسی کام کے سلسلہ میں بھیجا جائے اور وہ اپنا کام سر انجام دے ڈالے۔ خاطبُ الدنیا: دنیا کا طالب اور دنیا میں متحکم۔ الخِطْب جمع اخطاب: منگنی کرنے والا۔ عورت جس سے منگنی کی جائے کہا جاتا ہے۔ هو خِطبُها وهی خِطبُهُ: وہ مرد اس عورت کا منگیتر ہے اور وہ عورت اس مرد کی منگیتر ہے۔ الخِطْبَة (مص): عورت سے شادی کا خواستگار ہونا، وہ عورت جس سے منگنی کی گئی ہو، مرد کی طرف سے منگنی کے لئے پیش کیا جانے والا تحفہ۔ الخَطِیب جمع خُطَبَاء: منگنی کرنے والا۔ الخِطِّیب جمع خِطِّیبُون: عورت کو پیغام نکاح دینے والا، عورت سے منگنی کرنے والا۔ الخَطَّاب: منگنی کرانے والا۔ الخِطِّیبَی: عورت جس کو کوئی پیغام نکاح دے۔ منگیتر۔

۳۔ خَطِبَ ـَ خَطَبًا الشیءُ: تیرہ مائل سرخ زرد ہونا۔ دھندلے رنگ کا ہونا۔ أَخْطَبَت الحنطةُ: گندم کا پکنا۔ الخُطْبَة: دھندلا رنگ یا تیرہ رنگ جس میں سرخی زردی ملی ہوئی ہو۔ الأَخْطَب: تیرہ مائل سرخ زرد رنگ کا۔ –من الحنظل: سبز دھاریوں والا اندرائن۔

۴۔ اَخْطَبَ الصیدُ فلانًا: شکار کا کسی کی زد میں آنا۔

۵۔ الخَطْب جمع خُطُوب: حالت (کہا جاتا ہے: ماخَطْبُكَ؟ تمہاری کیا حالت ہے اور تم کو اس پر کس نے اکسایا) معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ عام طور پر بڑے اور ناپسندید معاملہ کے لئے مستعمل ہے۔ خُطْبَةُ الکتاب: کتاب کا دیباچہ۔ فصل الخطاب: فیصلہ جو دلیل یا قسم کے ساتھ دیا جائے۔ الأَخْطَب: شکرا۔ الخَطَّابِیَّة: رافضی امام ابی الخطاب کے پیروکار جنہیں اس کی طرف سے حکم تھا کہ اپنے مخالفوں کے خلاف جھوٹی گواہی دیا کریں۔

○ خَطَبَ ـُ خُطْبَةً و خَطَابَةً: عوام کے روبرو تقریر کرنا، خطاب کرنا، تقریر کرنا۔ فی الناس /الناسَ: لوگوں کو پند و نصیحت کرنا، وعظ کرنا۔ خطبہ دینا۔ خَطَبَ ـُ خَطْبًا و خِطْبَةً ها: مرد کا لڑکی کو شادی کا پیغام دینا۔ –ها لِ: (رشتہ کرانے والے) کا لڑکی کا کے لئے رشتہ مانگنا۔ –بنته ل /علی: اپنی بیٹی کی سے منگنی کرنا۔ خطب وُدَّها اور خطب مُوَدَّتَها: لڑکی کی اس سے شادی کے لئے محبت جیتنے کی کوشش کرنا۔ خَاطَبَ ہ: سے خطاب کرنا، مخاطب ہونا، سے بات کرنا، گفتگو کرنا، زبانی یا لکھ کر کسی کی طرف توجہ کرنا۔ خاطبه بالتلیفون: کو ٹیلی فون کرنا۔ خَاطبه بالکاف: کو اس کے ذاتی نام کی بنیاد پر لکھنا۔ تَخَاطَبَا: باہم گفتگو کرنا، ایک دوسرے کو لکھنا، ایک دوسرے سے خط و کتابت کرنا۔ اختطب: لڑکی سے شادی کا طالب ہونا۔ خَطْب جمع خُطُوب: معاملہ، کاروبار، کام، صورت حال، حالات افسوسناک حادثہ، سوئے اتفاق، بدقسمتی، فکر، تشویش پریشانی۔ ما خَطْبُكَ؟: تم کیا چاہتے ہو، پریشانی کیا ہے؟، معاملہ کیا ہے؟۔ ما خطبُه فی: اس کا اس سے کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے؟ ماخَطْبُ ذلك: یہ سب کچھ کس کے بارے میں ہے؟ خِطْبَة: شادی کی نیت سے معاشقہ، منگنی، نسبت، سگائی۔ خُطْبَة جمع خُطَب: عوام سے خطاب، تقریر، لیکچر، (عالمانہ) خطبہ، وعظ، خصوصاً مسلمانوں کا جمعہ کو خطبہ۔ خُطْبَةُ الافتتاح: افتتاحی تقریر۔ خِطاب جمع خطابات و اَخِطَبة: عوامی خطاب، تقریر، خط، چٹھی، نوٹ، پیغام۔ خطابُ ترحیب: خطبہ استقبالیہ، خطب العرش: شاہی تقریر۔ خطابٌ مُستعجل: فوری ترسیل طلب خط۔ خطابُ تَقْدِمَة: تعارفی خط۔ خطابات ذات القیمة المقرَّرة: رجسٹرڈ یا بیمہ شدہ چٹھیاں۔ فصل الخطاب: اختتام، خاتمہ، فیصلہ، واضح فیصلہ، واضح حکم بینی و بینك فصلُ الخطاب: میرے اور تمہارے درمیان تعلق ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ خِطابی: خطیبانہ، جذباتی، تقریری، لیکچر کا۔ خَطِیب جمع خُطَبَاء: (عوامی) مقرر، مقرر لیکچرار، واعظ، خطیب: (لڑکی سے) شادی کی درخواست کرنے والا، منگیتر (مرد) خَطِیبَة: منگیتر (لڑکی) خَطَابَة: فصاحت، خطابت، بلاغت، وعظ گوئی، تقریر کا فن۔ خِطابة: مرصع بیان، تقریر، لیکچر، خطبہ۔ خُطُوبَة: شادی کے لئے معاشقہ، منگنی، سگائی، نسبت۔ مُخَاطَبَة جمع مُخَاطبات: خطاب، عوامی خطاب، تقریر، باضابطہ اعلان، گفتگو، بات چیت، مشورہ، مشاورت، صلاح، گفت و شنید، مذاکرات۔ مُخَاطَبَة تلیفونیة: ٹیلی فون پر گفتگو، ٹیلی فون پر بلاوا۔ تَخَاطُب: بات چیت، گفتگو، بحث، ٹیلی فون، ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ رابطہ، میل جول۔ لغة التَخَاطُب: عام بول چال کی زبان۔ خاطِب جمع خُطَباء و خُطَّاب: شادی کا امیدوار، رشتہ کرانے والا خَاطِبَة جمع خُطَّاب: رشتہ کرانے والی۔ مَخْطُوبَة: منگیتر (لڑکی) مُخَاطَب: مخاطب، جس سے گفتگو کی جائے، جسے مخاطب کیا گیا ہو۔

خطر: ۱۔ خَطَرَ ـِ خَطَرانًا و خَطِیرًا فی مشیته: ہاتھ اوپر نیچے کرتے ہوئے چلنا۔ –بیده: ہاتھ آگے پیچھے کرتے ہوئے چلنا۔ –خَطْرًا و خَطَرانًا و خَطِیرًا الجملُ بذنبه: اونٹ کا اپنی دم کو بار بار اٹھا کر اپنی رانوں پر مارنا۔ الخَاطِر: فا۔ الخاطر کا اسم مبالغہ۔ الخَطِر: اترا کر چلنے والا۔

۲۔ خَطَرَ ـِ خَطَرانًا و خَطِیرًا الرمحُ: نیزہ کا ہلنا۔ –بسیفه اور رمحه: تلوار یا نیزہ کو فخر سے ہلانا۔ الخَطَّار: نیزہ مارنے والا، نیزہ، گوپھن۔

۳۔ خَطَرَ ـُ خُطُورًا الامرُ لَهُ: کو کوئی بات سوجھنا۔ الامرُ بباله و علی و فی باله: کو کوئی بات یاد آنا۔ –ت الحوادثُ: حوادث کا واقعہ ہونا، پیش آنا۔ اَخْطَرَ الشیءَ فی او علی او بباله: کو کوئی بات یاد دلانا۔ الخَاطِر جمع خَوَاطِر: دل میں آنے والی بات یا تدبیر، خیال کبھی اس کا اطلاق دل اور نفس پر بھی مجازاً ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے: وَقَعَ فی خاطری: میرے دل میں آیا۔ جَاشَ الشعرُ فی خاطری: میرے دل میں شعر کی آمد ہوئی، فلانٌ سریع الخاطِر: فلاں شخص تیز طبیعت ہے۔

۴۔ خَطُرَ ـُ خَطَراً و خُطُورَةً: بلند مقام ہونا، ذی قدر ہونا۔ صفت: خَطِیر جمع خُطُر۔ أَخْطَرَہُ: قدر و منزلت میں کسی جیسا ہونا۔ الخَطَر جمع اَخْطار: شرف، بلند قدری، رتبہ، مثل، ہم پلہ۔ (اس کا استعمال ذی مرتبہ چیز میں ہی ہوتا ہے جیسے: فی ظلِّ عیش خطیرٍ مالَهُ خَطَر: بے مثل بلند قدر زندگی کے سائے میں۔ الخَطِر: بلند مرتبہ، عالی قدر۔ الخَطِیر: عالی قدر۔ ذی قدر چیز کا مثل (کہا جاتا ہے لیس له خَطِیرٌ: اس کا کوئی مثل نہیں) شریف۔

۵۔ خَاطَرَ مُخَاطَرَةً بنفسه: اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا، جان جوکھوں میں ڈالنا۔ اَخْطَرَ المریضُ: بیمار کا خطرہ میں ہونا صفت: مُخْطِر۔ الخَطَر جمع اَخْطَار: ہلاکت کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے: رکبوا الأَخْطار: وہ خطروں میں پڑے۔ المَخَاطِر: خطرے۔ (اس کا مفرد نہیں ہے)۔

۶۔ خَاطَرَ مُخَاطَرَةً ہ علی کذا: سے پر شرط

لگانا۔اَخْطَرَ المالَ: مال کو شرط باندھنے والوں کے درمیان رکھنا۔تَخَاطَرَ القومُ علی الشیء: پر شرط باندھنا۔الخَطَر جمع خِطار و جمع خُطُر: گھوڑوں میں لگائی جانے والی شرط۔

۷۔تَخَطَّرَ: پھاندنا، تجاوز کرنا۔کہا جاتا ہے تَخَطَّرَنی شر فلان فلاں شخص کا شر مجھ سے تجاوز کر گیا۔

۸۔الخَطْر ایک بڑا پیمانہ۔ و الخِطْر: اونٹوں کے سرینوں پر مینگیوں کا جما ہوا میل، نظر کے سامنے آنے والا بادل۔الخِطر جمع اَخْطار: بہت پانی والا دودھ، بہت سے اونٹ، شاخ، ٹہنی۔واحد خِطْرَة (ن) خضاب کا پودہ۔الخَطْرَة: ایک مرتبہ، ایک بار، ایک دفعہ۔آپ کہتے ہیں مالقیتہ الاخطرة میں اس سے صرف ایک بار ملا۔الخَطِیر: مہار، رسی، ترمرے، رات کی تاریکی، دھمکی، ڈانٹ، شادمانی۔الخَطّار عطار، زیتوں کا خوشبودار تیل۔الخَطّارَة: اونٹوں کا باڑہ۔

۹۔خَطْرَفَ و تَخَطْرَفَ: تیز چلنا صفت خِطْرِیف و خُطْرُف۔خَطْرَفَہٗ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔

○خَطَرَ ـِ خَطَرانًا ب: کو جھلانا، گھمانا، لہرانا، لہلہانا، حرکت دینا۔ ـ: ہلنا، کانپنا، لرزنا، تھرانا، مرتعش ہونا، اترا کر چلنا، اکڑ کر چلنا، تکبر سے چلنا۔ ـُ خُطُورًا ل: کے دل میں آنا، کو سوجھنا۔خطر الامرُ علی بالہ: معاملہ کسی کے دل میں آنا، کا کو خیال آنا، کو یاد کرنا۔خطر الامر فی بالہ یا ببالہ یا علی قلبہ: کو یاد کرنا۔خَطَرَ لہٗ خاطرٌ: کو خیال ہونا۔امرٌ لم یَخْطِرُ ببالہ: غیر متوقع معاملہ، بات جو کسی کے خواب میں بھی نہ آئے۔خَطُرَ ـُ خُطُورَةً: وزن دار ہونا، بوجھل ہونا، اہم ہونا معنی خیز ہونا، سنگین ہونا، تشویشناک ہونا، قابل توجہ ہونا، بہت اہم ہونا، خطرناک ہونا، سخت خطرے کا ہونا جوکھوں کا ہونا، خطرے والا ہونا، جوکھوں والا ہونا۔خَاطَرَ ب/ بنفسہ: کو خطرے میں ڈالنا، اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا، کا امکان قبول کرنا، کا خطرہ مول لینا، اپنی جان کا خطرہ مول لینا، کو داؤ پر لگانا، اپنی جان کو داؤ پر لگانا۔ ہ علی: سے پر شرط لگانا، باندھنا، بدنا۔اَخْطَرَہٗ: کو مطلع کرنا، آگاہ کرنا، اطلاع دینا۔ ہ ب: کو کے بارے میں آگاہ کرنا۔ ہ: کو متنبہ کرنا، خبردار کرنا۔تَخَطَّرَ: تکبر سے چلنا، لپکتے ہوئے ڈگ بھرنا، اترا کر چلنا، اکڑ کر چلنا، جھولنا، ڈانواڈول ہونا گھڑی کے لٹکن کی طرح ہلنا، آگے پیچھے حرکت کرنا، لہرانا، جھومنا، تھرتھرانا، تھرانا۔تَخَاطَرَ علی: پر شرط لگانا۔خَطَر: باوقار ہونا، مہتم بالشان ہونا، اہمیت، وقعت، متانت، سنجیدگی، تشویشناکی، بھاری پن، وزن جمع خَطَرات و اَخطار: ہولناکی، خطرہ، ڈر، اندیشہ، خوف۔خَطَرٌ علی: (کو) دھمکی، ڈرانا، چشم نمائی، تہدید، سرزنش۔خطر جمع خطرات و اَخطار: خطرناک ہونا، خطرناکی، ہولناکی، خطرہ، اندیشہ، جوکھوں (جمع خِطار): شرط، بازی، داؤں، شرط کا روپیہ جو پہلے سے متعین ہو۔جلیلُ الخطر: نہایت اہم، مہتم بالشان ذو خطر: خطرناک، خوفناک مُعَرَّضٌ للخطر: خطرے میں پڑا ہوا، جوکھوں میں ڈالا ہوا، نقصان پہنچایا ہوا۔اِشارةُ الخطر: خطرے کا اشارہ۔خَطِر: خطرناک، خوفناک، جوکھوں کا، خطرے والا، جوکھوں والا، سنگین، تشویشناک، بوجھل، اہم معنی خیز۔خَطْرَة جمع خَطَرات: شان و شوکت دکھانے کی چال، اترا کے چلنا، اکڑ کے چلنا، لچک کی چال، خیال، فکر تصور رائے، نظریہ۔خَطّار: پنڈولم۔خَطِیر جمع خُطُر: اہم، بہت اہم، معنی خیز، سنگین، تشویشناک۔خطیر الشان: نہایت اہم۔خُطُورَة: اہمیت، وزن، سنجیدگی، متانت، تشویشناکی۔خَطَرَان: اہتزاز، جنبش، لرزش، ارتعاش۔اَخْطَر: زیادہ خطرناک، زیادہ بوجھل، زیادہ اہم، زیادہ سنگین، زیادہ تشویشناک۔مَخَاطِر: خطرے، سخت خطرے۔مُخَاطَرَة جمع مُخَاطَرات: خطرہ، جوکھوں، جوکھوں کا کام خطرناک کام، قسمت آزمائی۔اِخطار: اطلاع، آگاہی، تنبیہ۔خَاطِر جمع خَوَاطِر: خیال، ذہن، نفس، خواہش، تمنا، رغبت، میلان، پسند۔لاجلِ خاطرِكَ: تمہاری خاطر تمہارے واسطے، تمہارے لئے۔مِن كلِّ خاطرٍ: بڑی خوشی سے، مکمل طور پر، دل کی گہرائی سے۔عن طيبة خاطرٍ: بمسرت۔ رضا کارانہ، دل سے۔علی خاطرِكَ: جیسا تم چاہو۔اخذ بخاطرِہ: کو آرام دینا، مطمئن کرنا، کے اندیشے دور کرنا۔اخذ علی خاطرہ من: کی طرف سے دل کو ٹھیس پہنچنے کا احساس کرنا، سے ناراض ہونا۔صَدَّعَ خاطرَہٗ: کی ناک میں دم کرنا، کو پریشان کرنا۔طَمَّنَ الخواطر: جوش روکنا۔مَرَّ بخاطرِہ ان: اس کے دل میں خیال گزرا کہ.....اکراماً لِخاطرِكَ: تمہاری خاطر، تمہیں خوش کرنے کے لئے۔سُرعَةُ الخاطر: ہوشمندی، خطرے میں بھی حواس قائم رکھنا، اوسان خطا نہ ہونے دینا۔سریعُ الخاطِر: زود فہم، ذکی۔مُخَاطِر: خطرے میں کود جانے والا، بہادر، جری، دلیر، کسی بات کا خطرہ کا مول لینے والا، قسمت آزما۔مُخْطِر: خطرناک، جوکھوں کا، سخت خطرے کا، خطرے والا، جوکھوں والا۔

○خَطْرَفَ: ہذیانی ہونا، بدحواس ہونا (ہذیان میں) بکے جانا، بیہودہ گفتگو کرنا۔خَطْرَفَة: ہذیان، چلا چلا کر بولنا، ہذیان میں بکے جانا۔

خطف: ۱۔خَطِفَ ـَ خَطْفًا الشیءَ: کو اچک لینا۔البرقُ البصرَ: بجلی کا آنکھ کو چندھیا دینا یا اندھا کر دینا۔ ـ السمعَ: چوری سے سننا۔ و خَطَفَ ـِ خَطَفَانًا: تیز چلنا، جلدی چلنا۔صفت خَطِیف و خَیْطَف۔خَطَّفَ: (مبالغہ) بہت تیزی سے چھین لینا۔اَخْطَفَ الرجلُ: آدمی کا تھوڑا سا بیمار ہونا اور جلد اچھا ہو جانا۔تَخَطَّفَ و اِخْتَطَفَ الشیءَ: کو چھین لینا، کھینچنا، نکال لینا۔الخَطْف (مص): چھیننا، بعض کے نزدیک: جھٹ پٹ چھیننا۔الخُطْفَة: جھپٹنا، عضو جس کو درندہ جھپٹا مار کر زندہ جانور کے جسم سے اتار لے۔بچہ کا ماں کا جلدی سے تھوڑا سا دودھ پی لینا۔الخَاطِف (فا) جمع خَوَاطِف: زمین پر لگ کر نشانہ پر لگنے والا تیر۔الخَطَفَی و الخَیْطَفَی: تیز رفتاری۔کہا جاتا ہے: ھو یمشی الخَطَفَی: وہ تیز چال چلتا ہے۔الخطفی مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا حال ہونے کی وجہ سے۔تقدیر کلام ہے یمشی سریعاً: وہ تیز چلتا ہے۔الخَاطُوف: درانتی کی طرح کا ایک اوزار جس کو جال میں باندھ کر ہرن وغیرہ کو پکڑتے ہیں۔الخَطّاف: الخاطف کا اسم مبالغہ چور، شیطان۔الخُطّاف: چور (ح): ایک لمبے بازوؤں والا چھوٹے پاؤں والا سیاہ رنگ کا پرندہ۔خُطَّف بھی کہلاتا ہے۔ جمع خَطَاطِیف: آنکس کی طرح ایک قسم کا ٹیڑھا لوہا جس سے چیز اچک لی جائیں۔خطاطیف السباع: درندوں کے چنگل۔

۲۔اَخْطَفَہٗ: سے نظر بچانا۔اَخْطَفَہُ المرضُ: کی بیماری کا زور گھٹ جانا بالکل چلا جانا۔الخُطْف و الخَطَف: لاغری، پہلوؤں کا دبلا پن۔الاَخْطَفُ الحشی: دبلا، پتلا۔لونہ مَخْطُوف: زرد ہونے والا رنگ (عام زبان میں)۔

○خَطَفَ ـَ و خَطِفَ ـِ خَطْفًا ہ: کو چھین لینا، جھپٹنا، پر جھپٹا مارنا، زور سے کھینچنا، ہتھیانا، زبردستی چھیننا، زبردستی لینا، کو لے کر بھاگ جانا۔ ہ: کو اغوا کرنا، کو غیر قانونی طور پر اٹھا لینا۔ ـ البصرَ: آنکھیں چندھیانا، خیرہ کرنا۔تَخَطَّفَ ہ: کو لے جانا، روشن

بہالیجانا، بے خود کرنا۔ تَخَاطَفَ ہ: کو ایک دوسرے سے چھیننا، اِنْخَطَفَ: چھننا، جھپٹا جانا، لیجایا جانا، بہا لیجایا جانا۔ اِخْتَطَفَ ہ: کو چھیننا، زبردستی لینا۔ -ہ من: کو سے چھیننا، جھپٹنا، -ہ: کو اغوا کرنا، غیر قانون طور پر اٹھالینا۔ -ھا: عورت کو لے بھاگنا، -ہ: کو لے کر بھاگ جانا، فرار ہوجانا۔ -البصرَ: آنکھیں چندھیانا، خیرہ کرنا، خَطف: چھیننا، زبردستی لینا، عصمت دری، اغوا، خَطْفًا: تیزی سے، جلدی سے۔ خَطْفَة جمع خَطَفات: ہتھیانا، چھیننا۔ شعلہ، اچانک بھڑکنا۔ فی خطفةِ البرق: آناً فاناً، اسی دم اسی وقت، فوراً، بلاتوقف، ایک پل میں، برق صفت خَطْفَةٌ من خطفات الشعور: لہر، ترنگ، جذبہ، تحریک، اچانک جوش، ولولہ۔ خطّاف: سخت لالچی، ڈاکو۔ خطّاف جمع خطَاطیف: (آہنی) آنکڑا، کانٹا، مچھلی پکڑنے کا کانٹا، -اسم جنس واحد خَطَافه): ایک قسم کا ابابیل تیز پرواز ابابیل۔ خِطَیف جمع خطاطیف: آہنی آنکڑا، کانٹا اختطاف: چھیننا، زبردستی لینا، عصمت دری، اغوا۔ خاطِف جمع خوَاطِف: سخت لالچی، حریص، خونخوار (درندہ)، تیز، تیز رو، تیز رفتار، جلد، تیار، مستعد، چست، پھرتیلا، ناگاہ، اچانک، فوری، بجلی کی طرح، برق جیسا، مختصر، ناپائیدار، رواں، گزراں، ذناب خاطِفة: خونخوار بھیڑیے۔ صورة خاطِفَة: سرسری فوٹو سنیپ شاٹ۔ (Snaposhot) فوری طور پر لی گئی فوٹو۔ حرب خاطِفة: بجلی کا سا حملہ، اچانک سخت حملہ۔

خطل: ا۔ خَطِلَ َ خَطَلًا و اَخْطَلَ فی کلامه: بہت بیہودہ گفتگو کرنا۔ فی منطقه او رایه: بولنے یا رائے میں غلطی کرنا۔ الخَطَل (مص): بے وقوفی، سکی، سرعت، نہایت ردی، لغو گفتگو، بیہودہ گفتگو۔ پریشان گفتگو جیسے شاعر کا کہنا: اصالة الرای صانتنی من الخَطَل: رائے کی اصالت نے مجھے بیہودہ گفتگو سے بچالیا یا غلطی سے بچالیا۔ الخَطِل جمع اَخطال: بیہودہ گفتگو کرنے والا، احمق، -من السهام: نشانہ خطا کرنے والا تیر۔ الخاطِل: باطل الأَخْطَل مؤنث خَطْلا جمع خُطْل: بیہودہ گفتگو کرنے والا، ناشائستہ، فحش۔

۲۔ تَخَطَّل فی المشی: چلتے ہوئے تکبرانہ چال چلنا۔ الخَطَل: کہا جاتا ہے، اری فی مشیته خَطَلاً: اس کی چال میں کمزوری اور فرق پاتا ہوں۔

۳۔ الخَطَل: سرعت، طول، انسان، گھوڑے اور نیزہ میں بے ڈول پن۔ الخَطِل: تیزی سے نیزہ مارنے والا (جیسے: الاحوس فی الهیجاء بالرمح خَطِل: بہادر و دلیر لڑائی میں تیزی سے نیزہ مارنے والا ہوتا ہے۔) ثوبٌ خَطِل جمع اَخْطال: موٹا کھردرا کپڑا جو لمبا ہونے کی وجہ سے زمین پر گھسٹے۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ خطِل الیدین: کھردرے ہاتھوں والا آدمی۔ رُمْحٌ خَطِلٌ: بے ڈول لمبا نیزہ ہو۔ خَطِلٌ بالمعروف: بخشش میں جلدی کرنے والا۔ الاَخْطَل مؤنث خَطْلاء جمع خُطْل: لمبے اور ڈھیلے کانوں والا۔ الخَیْطَل (ح): کتا (ح) بلی، مصیبت، عطر فروش، ٹڈی دل۔

○ خَطِلَ َ خَطَلًا: بیہودہ گوئی کرنا۔ اَخْطَلَ: بیہودہ گوئی کرنا۔ تَخَطَّلَ: اترانے چلنا، اکڑ کے چلنا، شان و شوکت دکھانے والی چال سے چلنا، تکبرانہ اور لپک کر چلنے والی چال سے چلنا۔ خَطَل: بیہودہ گفتگو، طفلانہ گفتگو۔ خَطِل: بکواس، گپی، باتونی، ہرزہ سرائی کرنے والا، یاوہ گو، نادانی کی باتیں کرنے کا عادی بیوقوف، احمق۔

خطم: ا۔ خَطَمَ ِ خَطْمًا ہُ بالخِطام: کو نکیل ڈالنا -الرجلَ: آدمی کی ناک پر مارنا۔ خَطَّمَ ہ بالخطام: کو نکیل ڈالنا۔ اِخْتَطَمَ الخِطامَ: نکیل ڈالنا۔ الخَطْم (مص): ناک (انسان کا)، چونچ (پرندہ کی) – من الدابة: چوپایہ کی ناک اور منہ کا سامنے کا حصہ۔ الخَاطِم (فا): کہا جاتا ہے: فلانٌ خاطِمُ امر بنی فلان: فلاں شخص بنی فلاں کا راہبر و پیشوا اور ان کے معاملات کا منتظم ہے۔ الخِطام جمع خُطُم: مہار، نکیل۔ الاَخْطَم مؤنث خَطْماء جمع خُطْم: لمبی ناک والا۔ المَخْطِم و المِخْطَم ج مَخَاطِم: ناک۔ الخَطّام: اسم مبالغہ۔ مسكٌ خَطّام: وہ مشک جو اپنی خوشبو سے ناک بھر دے۔

۲۔ خَطَمَ ِ خَطْمًا ہ بالکلام: کو گفتگو سے خاموش کر دینا۔

۳۔ خَطَمَ ِ خَطْمًا و خِطامًا القوسَ بالوتر: کمان پر تانت چڑھانا۔ الخِطام جمع خُطُم: کمان کی تانت۔

۴۔ الخَطْم: بڑا یا اہم کام یا معاملہ۔ الأَخْطَم مؤنث خَطْماء جمع خُطْم: سیاہ، کالا۔ الخَطْمِیّ و الخِطْمِیّ واحد خَطْمِيَّة (ن): خطمی خبازی۔ ایک پودا جس کا تنہ سیدھا اور لمبا ہوتا ہے۔ پھول سرخ و سفید ہوتے ہیں۔

○ خَطْم: ناک، تھوتھنی، چھیکا، (ناک اور منہ کا) سامنے کا حصہ، پہلا حصہ، اہم معاملہ۔ اَطَلَّ بِخَطْمِهِ: اپنی قوت کا اظہار کرنا (مصیبت کا) شروع ہونا۔ خِطام جمع خُطُم: نکیل، مہار۔

خطا: ا۔ خَطَا ُ خَطْوًا: قدموں کے درمیانی حصہ کو کھول کر چلنا۔ خَطّی و اَخْطی الرجلَ: قدموں کو کشادہ کر کے چلنا۔ تَخَطّی تَخَطِیًا و اِخْتَطی اِخْتِطاءً ہُ الی کذا: کی طرف سے آگے گذر جانا، سبقت کرنا۔ الخُطْوَة جمع خُطًی و خُطُوات و خُطَوات و خُطْوات: چلنے کے وقت دو قدموں کا فاصلہ عوامی اصطلاح میں خَشْخَة۔ مسافت۔ کہا جاتا ہے: قَرَّبَ اللّٰه علیك الخُطْوَة: اللہ تعالیٰ مسافت کو تمہارے لئے قریب کر دے۔ الخَطْوَة جمع خَطَوات و خِطاء: خطا کا اسم مرّہ۔ قدم، گام، ڈگ، ایک قدم کا فاصلہ، لمبا قد، دو پیروں کے درمیان کا فاصلہ۔ -فی المساحة: چھ قدم۔

۲۔ خُطِیَ عنه الشیءُ: سے کچھ دور کیا جانا۔

۳۔ الخَطِیَّة: خطا، گناہ۔

○ خَطَا ُ خَطْوًا: قدم اٹھانا آگے بڑھنا، آہستہ چلنا، قدم قدم چلنا، بندھی رفتار سے چلنا، چلنا، چلتا جانا، ترقی کرنا، سبقت کرنا، خَطَا خَطَوَاتٍ: بڑے بڑے ڈگ بھرنا۔ (مجازاً) غیر معمولی ترقی کرنا۔ خَطّی و تَخَطّی ہ: کی حد سے بڑھنا، کو عبور کرنا۔ میں سے گذرنا، چلنا، دریا کو پایاب مقام سے پار کرنا۔ -: دریا کا اپنے کناروں سے باہر آنا۔ البحار: سمندروں کو پار کرنا، سمندروں کے پار جانا۔ -ہ: کو چھوڑ دینا، سے بے التفاتی کرنا، کو نظر انداز کرنا، سے تجاہل برتنا، کا کچھ خیال نہ کرنا کے قریب سے گزر جانا۔ -ہ: کے دوسری طرف جانا۔ -الی: تک پھیلنا، -ہ: سے زیادہ ہونا، سے ماوراء ہونا۔ -ہ: سے بازی لیجانا، سبقت لیجانا، پر سبقت لیجانا سے آگے نکل جانا، سے بہتر کام کرنا۔ -ہ اِلی: سے گزر کر تک جانا، کو پیچھے چھوڑ کر کسی دوسری طرف رخ کرنا۔ ہ/ہ الی: کو نظر انداز کر کے کی طرف متوجہ ہونا۔ تَخَطّی به الی الامام: کسی چیز کو ترقی دینا، آگے کرنا بڑھانا۔ اِخْتَطی: قدم اٹھانا، آگے بڑھنا، آہستہ قدم چلنا، بندھی رفتار سے چلنا، چلنا، ترقی کرنا۔ خَطْوَة جمع خَطَوات و خُطْوة جمع خُطُوات و خُطُوات و خُطًی: قدم، گام، ڈگ، چال، رفتار، ایک قدم کا فاصلہ، لمبا قدم، دو پیروں کے درمیان کا فاصلہ۔ سار فی خُطاہ: کے نقش قدم پر چلنا۔ تَقَدَّمَ خُطْوَةً خُطْوَةً: قدم قدم بڑھنا۔ اِتَّخَذَ خطوةً حَاسِمةً:

فیصلہ کن قدم اٹھانا۔خُطُوَتانِ و قَفْزَةٌ: کود، جست، زقند، چھلانگ۔ پھلانگ۔خَطِیَّةٌ: گناہ، جرم، خطا، غلطی، سہو، چوک، لغزش، تجاوز، خلاف ورزی۔خُطَاة (خاطی کی جمع) گنہگار لوگ۔

خظا خَظَا ۔ خُظُوًّا لحمُهُ: کا گوشت گٹھا اور سخت ہونا۔اَخْظَی الرجلُ: موٹا ہونا، فربہ ہونا۔۔ہُ: کو موٹا کرنا، فربہ کرنا۔الخَظِی: گٹھے بدن والا کہا جاتا ہے۔امراۃٌ خَظِیَّةٌ بَظِیَّةٌ: گٹھیلے بدن کی عورت۔

خف ۱۔خَفَّ ۔ خَفًّا و خِفَّةً و خَفَّةً: ہلکا ہونا۔ خفَّفَ الشیءَ: کو ہلکا کرنا۔۔الثوبَ: کپڑے کو باریک بنانا۔الحرفَ: حرف کو تشدید نہ دینا۔اَخَفَّ: تھوڑے سامان و اسباب والا ہونا۔تَخَافَّ: ہلکا پھلکا ہونا۔اِسْتَخَفَّ ہُ: کو ہلکا جاننا۔الخِفّ: ہلکا۔الخِفَّة (مص) جسم، عقل اور عمل کا ہلکا پن۔الخفیف جمع اَخِفَّاء و خِفَاف و اَخْفَاف: ہلکا (کہا جاتا ہے هو خفیفُ الروح: وہ مہربان اور اچھی صفت والا ہے۔ هو خفیف القلب: وہ ذہین ہے۔) علم عروض کی اصطلاح میں ایک بحر کا نام۔ اس کا وزن ہے: فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلاتُنْ۔ الخُفَاف: ذہین، تیز فہم۔

۲۔خَفَّ ۔ خَفًّا و خِفَّةً و خُفُوفًا الی العدو: دشمن کی طرف جانے میں تیزی کرنا، جلدی کرنا۔ ۔القومُ: جلدی سے کوچ کرنا۔تَخَفَّفَ: جلدی کرنا۔الخفیف جمع اَخِفَّاء و خِفَاف و اَخْفَاف: کام یا چلنے میں پھرتیلا۔کہا جاتا ہے هو خفیف الید: وہ کام میں پھرتیلا ہے۔

۳۔خَفَّ ۔ خَفًّا و خِفَّةً و خَفَّةً: کم مال والا ہونا۔ ۔المطرُ: بارش کا کم ہونا۔۔خَفًّا و خِفَّةً و خُفُوفًا القومُ: کم ہونا۔اَخَفَّ: رقیق الحال ہونا۔الخِفّ: تھوڑی جماعت، کہا جاتا ہے خَرَجَ فی خِفٍّ من اصحابہ: وہ اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔الخفیف جمع اَخِفَّاء و خِفَاف و اَخْفَاف: کہا جاتا ہے: هو خفیفُ الظهر: وہ کم اولاد والا ہے۔کہا جاتا ہے هو خفیفُ العارِضَین: وہ تھوڑی داڑھی والا ہے۔

۴۔خَفَّ ۔ خَفًّا و خِفَّةً و خَفَّةً: کم عقل ہونا۔اَخَفَّ الرجلَ: کو جہالت پر اکسانا، کی بدگوئی کرنا۔اِسْتَخَفَّ ہُ: کو حق و راستی سے ہٹا دینا، کو جاہل سمجھنا۔ ۔بہ: کو حقیر جاننا۔۔ہُ الغناءُ: کو گانے کا طرب و نشاط میں لانا۔۔ہُ الطربُ: خوشی سے پھولے نہ سمانا کو خوشی کا فسق و فجور پر اکسانا۔الخفیف جمع اَخِفَّاء و خِفَاف و خِفَاف: کہا جاتا ہے هو خفیفُ العقل: وہ احمق ہے۔

۵۔تَخَفَّفَ: چمڑے کا موزہ پہننا۔الخُفّ جمع اَخْفَاف و خِفَاف: موزہ چرمی۔کہا جاتا ہے۔خُفٌّ ضَاحِكٌ: پھٹا ہوا موزہ، جس میں قدم کا کچھ حصہ نظر آتا ہو، قدم کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔۔للبعیر و النعام: اونٹوں اور شتر مرغ کی ٹاپ۔الخَفَّاف: چرمی موزے بنانے والا۔

۶۔الخُفّ: سخت زمین۔الخَفُوف (ح): بجو۔

۷۔خَفْخَفَ خَفْخَفَةً الخنزیرُ او الضبعُ: سؤر یا بجو کا آواز نکالنا۔۔الرجلُ قمیصَه الجدیدَ او القرطاسَ: کوئی قمیص یا کاغذ کو حرکت دینے سے اس کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دینا۔الخَفْخَاف: وہ شخص جس کی آواز ناک سے نکلتی ہوئی معلوم ہو۔

○ خَفَّ ۔ خَفًّا: (بوجھ کا) ہلکا ہونا، غیر اہم ہونا، معمولی ہونا۔ زیادہ ہلکا ہو جانا، وزن میں کم ہو جانا، بے وزن ہونا، وزن کھو دینا (رنگ کا) زیادہ پھیکا ہونا، شدت میں کم ہونا، پھرتیلا ہونا، تیز ہونا۔۔اِلی: کی طرف جلدی جانا، جلدی کرنا، تیزی سے جانا۔خَفَّفَ ہ: کو زیادہ ہلکا کرنا، کا وزن کم کرنا۔عن ہ/علی ہ: کے لئے، کسی مشکل بات کو ہلکا کرنا، نرم کرنا، ڈھیلا کرنا، کم کرنا۔۔ہ/من: کو کم کرنا، گھٹانا، ہلکا کرنا، کی سختی کم کرنا۔۔ہ: (سیال) کو پتلا کرنا، ہلکا کرنا خَفِّفْ عنك: خوش ہو جاؤ، ہمت نہ ہارو، امید قائم رکھو! خَفِّفْ من سرعتِكَ: رفتار آہستہ کرو! خَفَّفَ الآلامَ عنه: کی تکلیفوں کو تسکین پہنچانا۔تَخَفَّفَ: ہلکا پھلکا لباس پہننا، اپنا بوجھ ہلکا کرنا۔۔من: خود کو سے آزاد کرنا، سے جان چھڑانا، سے پیچھا چھڑانا، سے نجات حاصل کرنا۔۔عن: سے بسرعت دور ہو جانا، کو جلدی سے ترک کرنا، چھوڑ دینا۔اِسْتَخَفَّ ہ: کو ہلکا سمجھنا۔۔ب: کی قدر نہ کرنا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا، حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، سے نفرت کرنا، کو ذلیل جاننا، حقیر سمجھنا، گھٹیا یا برا جاننا، کو کچھ نہ جاننا، کو معمولی سمجھنا، کو سنجیدگی سے نہ لینا، کو کوئی اہمیت نہ دینا۔۔ہ: کو خوشی کا جامے سے باہر کر دینا، پھلا دینا، آپے سے باہر کر دینا۔خُفّ جمع خِفَاف و اخفاف: جوتا، سلیپر (جمع اَخْفَاف): اونٹ کا سم، کھر، شتر مرغ کا پاؤ، پاؤں کا تلوا، جوتے کا تلا۔رَجَعَ بخُفَّی حُنَین: ـــ خالی ہاتھ لوٹنا، مقصد پورا کئے بغیر لوٹنا، کچھ نہ کرنا، ناکام ہونا، ناروا ہونا۔خِفَّة (وزن کا) ہلکا ہونا، غیر اہم ہونا، سبکی، ہلکا پن، کمزوری، نزاکت، حقیر ہونا، شگفتہ خاطری، شوخی، زندہ دلی، خوش طبعی، چستی تیزی، پھرتی، چالاکی، تیز فہمی، چابکدستی، سبک رفتاری عدم استقلال، تلون مزاجی، بے ثباتی، ناپائداری، ناسمجھی، بے وقوفی، اوچھاپن، چھچھوراپن۔خِفَّة الحرکة اور خِفَّة فی الحرکة: پھرتی، تیزی، تیز رفتاری، چستی، چالاکی، جلدی، مستعدی، زیرکی، ذہانت۔خِفَّة الدم، دل نوازی، خوش خلقی، ملنساری، دلفریبی، دلکشی، دلربائی، دلبری، دل آویزی، حسن و جمال۔خفة الروح: بمعنی خفة الدم، خفة الید: سبک دستی، چابک دستی، ذہانت، تیز فہمی، ہنرمندی، چالاکی، ہوشیاری دستی مہارت۔اَخَفّ: زیادہ ہلکا، زیادہ معمولی، کمزور تر۔اَخَفُّ الضَرَرَین: دو برائیوں میں سے کمتر برائی۔خَفَاف و حجرُ الخَفَاف: جھانوا۔خُفَّان: جھانوا۔خفیف جمع خِفَاف و اَخْفَاف و اَخِفَّاء: ہلکا، معمولی، تھوڑا، غیر اہم، پتلا، بمشکل کچھ، بہت کم، ناکافی، نہ ہونے کے برابر، چھدرا، چست چالاک، سبک رفتار، پھرتیلا، ذہین، تیز فہم، بشاش، چلبلا، شوخ، خوش مزاج، زندہ دل، خوش طبع، تیز طرار، سرگرم، جوشیلا، زوردار۔خفیف الحرکة: آسانی سے منتقل کیا جا سکنے والا، نہایت متحرک، چست چالاک، پھرتیلا، سبک رفتار۔خفیف الدم: ملنسار، خوش خلق، دل آویز، دلکش، دل پسند، قابل محبت، دلفریب، دلربا۔خفیف الظل: پسندیدہ، عمدہ (شخص)۔خفیفُ العقل: کمزور ذہن والا، بیوقوف۔خفیفُ الید: مشاق، ماہر، منجھا ہوا، تیز دست، سبک دست۔ظروف التخفیف و ظروف مُخَفِّفَة: جرم کی نوعیت کو کم کرنے والے حالات۔مُخَفَّف: پتلا، پتلا کیا ہوا۔

خفا: خَفَا ۔ خَفْوًا الشیءَ: کو اکھیڑ کر زمین پر پھینکنا۔۔البیتَ: گھر کو ڈھانا، گرانا۔

خفت: اِخْفَتَ ۔ خُفَاتًا: اچانک موت سے مرنا۔ خُفُوتًا الصوتُ: آواز کا پست ہونا۔صفت خَافِت و خَفِیت۔خَفَتًا بکلامه و بصوته: کلام اور آواز کو پوشیدہ رکھنا، پست کرنا، آہستہ کرنا۔۔بالقراءة: پست آواز سے پڑھنا۔خَافَتَ ہُ: کے ساتھ پست آواز سے گفتگو کرنا۔۔بکلامه و بصوته: گفتگو اور آواز کو پست کرنا۔تَخَافَتَ: بتکلف سکون اور ضعف کا اظہار کرنا۔۔بکلامه و بصوته: گفتگو اور آواز کو پست کرنا۔۔بالقراءة: پست آواز سے پڑھنا۔الخُفُوت: کمزوری، سکون۔

۲۔الخَفْت (ن): ایک قسم کا پودہ، اسپند، کالا دانہ، سداب۔الخافت: پانی سے خالی بادل۔زَرْعٌ خَافِت: کمزور

پودہ جو اونچا نہ ہوا ہو۔ الـخـفـتـان: چلتہ: ایک قسم کا لباس جو جنگ میں پہنا جاتا ہے (فارسی لفظ)۔

○ خَـفَتَ ـُ خُفُوتًا: دھیما ہونا، سنائی نہ دینا، بہت آہستہ بولنا، ختم ہو جانا، مرجانا، فنا ہو جانا، چپ ہو جانا۔ خاموش ہو جانا، ساکت ہو جانا۔ خَافَتَ بِکَلامِهٖ / بِصوته: اپنی آواز کو پست کرنا۔ اَخْفَتَ ہ: کو خاموش کر دینا، چپ کرا دینا، کو خاموشی کی حالت میں لانا۔ خُفُوت: ماند پڑنے والا، دھیرے دھیرے گھٹنے والا۔ خَافِت: کمزور اور ماند ہونے والا، بتدریج پست ہونے والا بہت دھیما، جو سنائی نہ دے، خاموش ہو جانے والا، کمزور، ماند، مرنے والا، زائل ہونے والا، ماند پڑنے والا۔ بتدریج خاموش تر اور پھر رک جانے والی (آواز) نرم، دھیما، ہلکا (رنگ، روشنی) مُخْتَفِت: نرم، نیچا، پست، مغلوب، دھیما، ہلکا۔

خفج: خَفِجَ ـَ خَفَجًا البعيرُ: اونٹ کا ٹانگوں کی کپکپاہٹ کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ الخَفَج: ٹانگوں کی کپکپاہٹ۔ الأَخْفَج: ٹیڑھے پاؤں والا، ٹانگوں کی کپکپاہٹ کے مرض میں مبتلا۔ عمودٌ اَخْفَج (ب): ٹیڑھا ستون۔ الخَفِيج: کمزور، سست، ڈھیلا۔

خفد: خَفَدَ ـُ خَفْدًا و خَفَدانًا و خَفِدَ ـَ خَفَدًا: تیز چلنا۔ الخُفْدُد و الخُفُدُود (ح): چمگادڑ کی مانند ایک پرندہ۔ الخَفَيْدَد جمع خَفَادِد و خَفَادِيد (ح): نر شتر مرغ۔

خفر: اـخَفَرَ ـِ خَفْرًا و خَفَارَةً و به و عليه: کو پناہ دینا، کی حفاظت کرنا، کو امن دینا۔ ـہُ: سے اس کی حفاظت کے لئے اجرت لینا۔ خَفَّرَہُ: کو امن دینا کی حمایت کرنا، (شہر) کے گرد دیوار بنانا۔ اَخْفَرَہُ: کے ساتھ محافظ بھیجنا۔ تَخَفَّرَ به: کو پناہ دینا، کے پاس پناہ لینا، سے اپنا محافظ ہونے کی درخواست کرنا۔ الخُفْرَة: پناہ دینا، حفاظت کرنا، امن دینا، حفاظت، ذمہ (کہا جاتا ہے ہو فی خُفْرَةِ اللّٰہ: وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت یا ذمہ میں ہے۔ هذا خُفَرَتِي: وہ میرا راہبر و محافظ ہے)۔ پناہ دینے والا۔ الـمَخْفَر جمع مَخَافِر: پولیس چوکی، فوجی چوکی۔ الـخَفِير جمع خُفَراء: جس کو پناہ دی گئی ہو، پناہ دینے والا، حمایت و حفاظت کرنے والا۔ الـخفارة (بتثليث الخاء): پناہ دینا، حفاظت کرنا، امن دینا، حفاظت، جان و مال کی حفاظت۔ الخُفَارَة: چوکیدار کی تنخواہ۔

۲ـخَفَرَ ـِ وخُفُورًا و خُفُورًا بالعهد: عہد پورا کرنا ایفائے عہد کرنا۔

۳ـخَفَرَ ـِ خَفْرًا و خُفُورًا فلانًا: کے ساتھ عہد کو توڑ دینا، کے ساتھ بے وفائی کرنا۔ اَخْفَرَہُ: کے ساتھ عہد توڑ دینا سے بے وفائی کرنا۔

۴ـخَفِرَ ـَ خَفَرًا و خَفَارَةً ت الجارية: لڑکی کا بہت شرم کرنا۔ صفت خَفِر و خَفِرَة و مِخْفَار۔ تَخَفَّرَتِ الجارية: لڑکی کا بہت شرمیلی ہونا، بہت شرم کرنا۔

○ خَفَرَ ـُ خَفْرًا و خِفَارَةً ہ / ہ: کی نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا، کی دیکھ بھال کرنا۔ خَفِرَ ـَ خَفَرًا و خَفَارَةً: بزدل ہونا، ڈرپوک ہونا، بودا ہونا، شرمیلا ہونا، لجیلا ہونا، حیادار ہونا۔ خَفَّرَ ہ/ہ: بمعنی خَفَرَ ہ/ہ: تَخَفَّرَ: بمعنی خَفِرَ۔ خَفْر: نگہبانی کرنا، پہرہ داری، پہرہ، نگہداری، پاسبانی حفاظت کرنا، پہرہ دینا۔ حفاظت۔ خَفَر: حفاظت کرنے والا دستہ، گارڈ، محافظ، حفاظتی دستہ۔ خَفَرُ السَّوَاحِل: بحری پولیس۔ خَفَر: بزدلی، شرم، حیا، لاج، شرمیلا پن۔ خَفِر: شرمیلا، بے حوصلہ، جھجکنے والا، بزدل، ڈرپوک، لجیلا، حیا دار، پریشان؟ شرمیلی، لجیلی، حیا دار (لڑکی عورت)۔ خَفِير جمع خُفَرَاء: چوکیدار، حفاظت کرنے والا، پہریدار سرپرست، گارڈ۔ محافظ، سنتری، فوجی پہریدار۔ خِفَارَة: پہریداری کرنا، نگہبانی کرنا، پہریداری، نگہبانی، پہرہ، حفاظت، مَخْفَر جمع مَخَافِر: گارڈ، چوکی، نگرانی کی چوکی مَخْفَرُ الشُّرطة: تھانہ، پولیس سٹیشن۔ خَافِرَةُ السَّوَاحِل: سمندر میں گشت کرنے والا ساحلی پولیس کا جہاز۔ مَخْفُور: زیر حفاظت، حفاظتی دستہ کے ہمراہ، محفوظ، زیر پناہ، اوٹ میں کیا ہوا۔

خفس: اـخَفَسَ ـِ خَفْسًا: بہت بدزبانی کرنا۔ ـُ خَفْسًا ہ: سے ٹھٹھا کرنا۔ اَخْفَسَ: بہت بدزبانی کرنا۔ شرابٌ مُخْفِس: جلد ست، مدہوش یا مخمور کرنے والی شراب، جس سے پینے والا بدزبانی پر اتر آتا ہے۔

۲ـخَفَسَ ـُ خَفْسًا الطعامَ او الشرابَ: تھوڑا کھانا یا پینا۔

۳ـخَفَسَ ـُ خَفْسًا البناءَ: عمارت کو ڈھانا، مسمار کرنا تَخَفَّسَ الرجلُ: لیٹنا۔

۴ـاِنْخَفَسَ الماءُ: پانی کا متغیر ہونا۔

○ خَفَسَ ـُ خَفْسًا ہ: سے تمسخر کرنا، کی ہنسی اڑانا، سے نفرت کرنا، کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، برا خیال کرنا، پر ہنسنا، کا مضحکہ اڑانا، طنز کرنا، کا مذاق اڑانا، پر استہزا کرنا، کو خفیف کرنا۔ ـہ (مکان) کو تباہ کرنا، مسمار کرنا، ڈھانا۔

خفش: اـخَفَشَ ـُ خَفْشًا به: کو پھینکنا۔ ـالبناءَ: عمارت کو مسمار کرنا، ڈھانا۔ خَفَّشَ البناءَ: عمارت کو مسمار کرنا، ڈھانا۔ ـالرجلَ: کو پچھاڑنا، کچلنا۔

۲ـخَفِشَ ـَ خَفَشًا: کمزور ہونا، پیدائشی طور پر کمزور نظر والا ہونا، تنگ آنکھ والا ہونا، دن کا اندھا ہونا۔ رات کو دیکھنا دن کو نہ دیکھ سکنا۔ صفت خَفِش و اَخْفَش۔ خَفَشَ البدنُ: بدن کا کمزور ہونا۔ الخُفَّاش جمع خَفَافِيش (ح): چمگادڑ۔

۳ـخَفَّشَ بالارض: زمین سے چمٹنا۔

○ خَفَش: دن کو دکھائی نہ دینا، دن کا اندھاپن۔ اَخْفَش مونث خَفْشاء جمع خُفْش: دن کا اندھا، کمزور نظر والا۔

خفض: اـخَفَضَ ـِ خَفْضًا ہُ: کو پست کرنا، نیچا کرنا۔ ـالصوتَ: آواز کو آہستہ کرنا، نرم کرنا۔ ـ الکلمة: کلمہ کو زیر دینا۔ اِنْخَفَضَ: پست ہونا۔ ـ الصوتُ: آواز کا پست ہونا۔ اِنْخَفَضَ السعرُ: بھاؤ کا گرنا۔ الـخَافِض (فا) اللہ تعالیٰ (اسماء حسنی میں سے ایک) جو ظالموں اور فرعونوں کو نیچا اور ذلیل کرتا ہے) کہا جاتا ہے: هو خافضُ الطير و خافِضُ الجناحِ: وہ صاحب وقار اور متحمل مزاج ہے۔

۲ـخَفَضَ ـِ خَفْضًا الرحلُ: مرنا۔

۳ـخَفَضَ ـِ خُفُضًا الصوتُ: آواز کا نرم ہونا۔ ـ ت الابلُ: اونٹوں کا آہستہ اور نرم رفتار سے چلنا۔ ـبالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ خَفُضَ ـُ خَفْضًا العيشُ: زندگی کا آسودہ اور خوش حال ہونا صفت خَفِيض و خافِض و مَخْفُوض خَفَّضَ الشيءَ: کو نرم کرنا، آسان کرنا۔ اس سے ہے: خَفِّضْ عنك: اپنے اوپر نرمی کرو۔ تَخَفَّضَ الامرُ: آسان ہونا۔ الخَفْض و الخَفِيضَة: زندگی کی آسودگی اور فراخی۔ کہا جاتا ہے هو فی خفضٍ من العيش: وہ آسودہ اور فراخ زندگی میں ہے۔

○ خَفَضَ ـِ خَفْضًا ہ: کو نیچا کرنا، کم کرنا، گھٹانا، میں تخفیف کرنا، کمزور کرنا، (آواز) کو پست کرنا، گرانا (صلہ من کے ساتھ بھی اس معنی میں ہے) آخری لفظ کو زیر دینا خَفَضَ جناحَهُ لِ: کی طرف جھکنا، کے لئے کشادہ دل ہونا، ہمدرد ہونا، قابل رسائی ہونا۔ خَفُضَ ـُ خَفْضًا: ذمہ داریوں اور پریشانیوں کے بغیر ہونا، با آرام ہونا آسودہ ہونا، سکھی ہونا، خوشحال اور مطمئن ہونا (زندگی کا)، (آواز کا) نیچا ہونا، پست ہونا۔ ـ: بیٹھ جانا، دب جانا، دھنس جانا مدھم ہونا، فرو ہونا، ڈوبنا،

گھٹنا، گرنا، رہنے لگنا، آباد ہونا خَفَّضَ ہ: چیز یا بھاؤ کم کرنا، گھٹانا۔ خَفِّضْ علیك: آرام سے، دھیرج سے، تحمّل سے! خَفِّضْ علیك جاشكَ: پریشان نہ ہو، پُرسکون ہو جاؤ، جوش میں نہ آؤ۔ اَخْفَضَ صوتَہ: اس نے اپنی آواز پست کردی۔ تَخَفَّضَ و اِنْخَفَضَ: ڈوبنا، دب جانا، بیٹھ جانا دھنس جانا، کم ہونا، نیچا ہونا، (بھاؤ کا) گر جانا، گھٹ جانا خَفْض: کم کرنا، نیچا کرنا، پست کرنا، تخفیف، کمی، گھٹنا، گھاٹا، زوال، آواز بند کرنا، کانٹ چھانٹ، قطع برید، پابندی، زندگی کی آسودگی۔ آخری لفظ پر زیر لگانا۔ خفضُ القیمة: کونسی کا گراؤ۔ خفضُ العیش: پریشانیوں اور ذمہ داریوں کے بغیر آسودہ زندگی، ھو فی خفض من العیش: وہ آسودہ اور آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ خَفض الصوت: آواز کی پستی۔ حرف الخفض: حرف جار، حرف جر۔ خَفِیض: نیچی، نرم دھیمی (آواز)۔ تخفِیض: نیچا کرنا، تخفیف کرنا، گھٹانا (خصوصاً بھاؤ) کمی، تخفیف، تقلیل، کاٹ چھانٹ، پابندی۔ انخفاض: ڈوبنا، گرنا، بیٹھ جانا، فرو ہونا، گر پڑنا، عام سطح پر آ جانا، کمی، تخفیف، تقلیل، گھٹاؤ، پانی کی سطح کا گرنا، جزر۔ انخفاض جوی: کم دباؤ کا علاقہ، مُخَفَّض: نیچا کیا ہوا، کم کیا ہوتا، نیچا، واجبی (قیمت، بھاؤ، نرخ) مُنْخَفِض: کم، گری ہوئی (قیمت بلندی، رفتار وغیرہ)، نرم، نیچی، دھیمی (آواز) الاراضی المُنْخَفِضَة: پست زمین، نشیبی زمین، نشیب۔

خفع: ۱۔ خَفَعَ - خَفْعًا: بھوک وغیرہ کے باعث چکرا کر گر جانا۔ --ہُ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ اَخْفَعَ ہُ الجوعُ: کو بھوک کا پچھاڑ دینا۔ اِنْخَفَعَ: بے ہوشی کے قریب ہونا۔

۲۔ خَفَعَ - خَفْعًا و خَفَعَانًا السترُ: پردہ کا ہلنا۔

خفق: ۱۔ خَفَقَ - خَفْقَاہُ بالسیف: پر تلوار سے آہستہ ضرب لگانا۔ اَخْفَقَ ہُ: کو پچھاڑنا۔ المِخْفَقَة: جس چیز سے مارا جائے، جیسے تسمہ وغیرہ المِخْفَق: چوڑی تلوار المِخْفَقَة: مارنے کا کوڑا، بعض کے نزدیک لکڑی کا کوڑا۔

۲۔ خَفَقَ - خَفَقَاتِ النعلُ: جوتے کا چرانا۔ خَفَّاقُ القَدَمِ: وہ شخص جس کے قدم کا اگلا حصہ چوڑا ہو۔

۳۔ خَفَقَ - خَفْقًا و خُفُوقًا و خَفَقَانًا الفؤادُ او الرایةُ او البرقُ او الریحُ: دل کا دھڑکنا، جھنڈے کا پھڑ پھڑانا، بجلی کا کوندنا، ہوا کا متحرک ہونا۔ - خُفُوقًا الطائرُ: پرندے کا اڑنا۔ اَخْفَقَ: مضطرب ہونا۔ --الطائرُ: پرندے کا بازو پھڑ پھڑانا، پھٹ پھٹانا۔ --براسِہ: اونگھ میں جھونکے کھانا۔ --بثوبِہ: کپڑے کو ہلا کر اشارہ کرنا۔ اِخْتَفَقَ العَلَمُ او السرابُ: جھنڈے یا سراب کا ہلنا۔ الخَفِق والخَفِقَة و الخُفَق و الخُفَقَة جمع خِفَاق و خَفِقَات و خُفَقَات: پتلی کمر کا گھوڑا (خَفِقَة و خُفَقَة میں "تا" تانیث کی نہیں بلکہ مبالغہ کی ہے)۔ الخَفْقَة: خَفَقَ کا اسم مرۃ الخافق (فا)۔ الخافِقَان: مشرق و مغرب۔ الخَفَّاق: اسم مبالغہ۔ الخَوَافِق والخَافِقات: خافقہ کی جمع: جھنڈے۔ خَوَافِقُ السماء: ہوا چلنے کی چاروں سمتیں۔ الخَيْفَق: وسیع بیابان جس میں سراب چمکتا ہوا دکھائی دے، بہت تیز رو گھوڑا یا اونٹنی۔ المَخْفَق: سراب والا ریگستان۔ المَخْفُوق (مفع): مجنون، پاگل۔

۴۔ خَفَقَ - خُفُوقًا النجمُ: ستارے کا غروب ہونا۔ -اللیلُ: رات کا اکثر حصہ گزر جانا۔ -الرجلُ فی البلاد: ملک میں سفر کرنا۔ اَخْفَقَ النجمُ: ستارے کا غروب ہونا۔ رجلٌ خافِقُ العین: دھنسی ہوئی آنکھ والا۔ مَخَافِقُ النجم: ستاروں کے ڈوبنے کی جگہیں۔

۵۔ خَفَقَ - خُفُوقًا المکانُ: جگہ کا خالی ہونا۔ اَخْفَقَ القومُ: قوم کے توشے کا ختم ہونا۔ مکانٌ خافِق: انسانوں سے خالی زمین۔

۶۔ اَخْفَقَ: حاجت طلب کرنا لیکن ناکام رہنا، محروم ہونا۔

۷۔ الخَيفَق: مصیبت۔

○ خَفَقَ - خَفْقًا و خَفَقَانًا و خُفُوقًا: مرتعش ہونا، کانپنا، لرزنا، ہلنا، (دل کا) دھڑکنا، (جھنڈے کا) پھڑ پھڑانا، لہرانا (پرندے کا) پر پھڑ پھڑانا، ادھر ادھر ہلنا، تھرتھرانا، جھلملانا۔ --خَفْقًا: بجلی کا چمکنا، کوندنا۔ --ہ: (انڈے، کریم وغیرہ) کو پھینٹنا۔ (جوتے کا) چرانا۔ خُفُوقًا (خفق خَفْقَةً) اونگھنا، اونگھ جانا اونگھتے ہوئے سر گرانا۔ --خُفُوقًا: (آسمانی جرم) کا غروب ہونا۔ خَفَّقَ ہ: (دیوار) کو چھوٹے پتھروں سے ڈھکنا، دیوار پر پلستر کرنا استر کاری کا مصالحہ چڑھانا۔ اَخْفَقَ: (پرندے کا) پر پھڑ پھڑانا، (جرم سماوی کا) غروب ہونا، ناکام ہونا، نامراد رہنا، کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا، کچھ نہ بننا، ناکام رہنا، خراب ہو جانا۔ --فی: میں ناکام ہونا۔ خَفْق: دھڑکن، ارتعاش، پھینٹنا، پھڑ پھڑانا، چاپ آہٹ، پاؤں، جوتے کا زمین پر لگا ہوا حصہ۔ خَفَقَة جمع خَفَقَات: دھڑکن ارتعاش، دستک، ٹک ٹک یا کھٹ کھٹ کی آواز، ٹک ٹک کھٹ کھٹ۔ خَفَقَان: دل کی دھڑکن، ارتعاش، دھڑکنا، مرتعش ہونا، پھڑ پھڑانا، پھڑ پھڑاہٹ۔ خَفَّاق: دھڑکنے والا، دھک دھک کرنے والا، پھڑکنے والا، لرزنے والا، تھرانے والا، پھڑ پھڑانے والا، لہرانے والا (جھنڈا)۔ مِخْفَقَة: متھنی یا ہونی (کریم یا انڈے پھینٹنے کی)۔ اِخْفَاق: ناکامی، ناکامیں ناکامی فش، مضحکہ خیز ناکامی، خافِق: دھک دھک کرنے والا، دھڑکنے والا (دل) لہرانے والا، پھڑ پھڑانے والا (جھنڈا)۔ الخَوَافِق: اطراف (شمال، جنوب، مشرق مغرب) زمین کے چار علاقے۔ خافِقی: چونا، گارا، پلستر، عمارتوں کی بیرونی دیواروں پر لگایا جانے والا چھوٹے چھوٹے پتھروں پر مشتمل مادہ، ایک طرح کا استر کاری کا مسالہ۔

خفن: الخَفْن: پیٹ کا ڈھیلا پن۔ الخَيُفَان واحد خَيُفانة (ح): ٹڈی۔ الخُفَّان: ایک نرم پتھر۔ (عوام میں مستعمل ہے۔ فصیح عربی میں اسے الرَّخْفَه کہتے ہیں)۔

خفا: خَفَا - خَفْوًا و خُفُوًّا البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ -الشیءُ: چیز کا ظاہر ہونا۔

خفی: ۱۔ خَفَى - خَفْيًا و خُفِيًّا الشیءَ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ خَفِيَ - خَفَاءً و خُفْيَةً و خِفْيَةً: پوشیدہ ہونا صفت: خافٍ و خَفِيّ۔ خَفَّى الشیءَ: کو پوشیدہ کرنا، چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ اخفى الرجلُ: پوشیدہ ہونا، چھپنا۔ --الشیءَ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَخْفِ عنّا: جو ہمارے متعلق پوچھے اس سے ہماری خبر مخفی رکھو۔ تَخَفَّى و اِسْتَخْفَى: پوشیدہ ہونا، چھپنا۔ اِخْتَفَى من فلان: سے چھپنا۔ الخَفَاء (مص): پوشیدگی، چھپنا۔ (کہا جاتا ہے: بَرِحَ الخَفَاءُ: معاملہ ظاہر ہو گیا) -جمع اَخْفِيَة: پردہ، چادر جو لباس کو چھپائے، پوشیدہ چیز۔ اَخْفِيَةُ الکری: آنکھیں۔ --الزھرۃ: کلی کے غلاف۔ الخَفِيّ: لوگوں سے کنارہ کش ہونے والا، مخفی جگہ رہنے والا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ خَفِيُّ البطن: پچکے ہوئے پیٹ والا۔ الخَفِيَّة: الخَفِيّ کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے: بہ خَفِيَّةٌ: اس پر کچھ دیوانگی کا اثر ہے۔ -جمع خَفَايا و خَفِيَّات: گنجان جھاڑی۔ الخَافِي و الخَافِياء: جنّ الخافِيَة: الخافی کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے۔ ارض خافِية: جنوں والی زمین۔ -جمع خَوَافٍ: پوشیدہ چیز۔ الخَوَافِی: پرندے کے بازو میں چھپے ہوئے پر۔ ضرب المثل ہے: لیس القَوَادِمُ کالخوافی: بازو کے اگلے پر چھوٹے پروں کی مانند

نہیں ہوتے۔ قوادم بازو کے اگلے پر جو بڑے ہوتے ہیں۔ المُختَفِی (فا): کفن چور۔

۲۔خَفَی ـِ خَفیًا و خُفِیًّا الشیءَ: کو ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے: خفی المطرُ الفارَ: بارش نے چوہے کو بل سے باہر نکال دیا۔ اَخفَی الشیءَ: کا سرپوش ہٹانا۔ اِختَفَی الشیءَ: کو ظاہر کرنا، نکالنا۔ البئرَ: کنواں کھودنا۔ الخَفِیَّۃ جمع خَفَایَا و خَفِیَّات: پانی والا کنواں۔

○ خَفِیَ ـَ خَفاءً: چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ علی: کو (حقیقت) معلوم نہ ہونا۔ ــ: غائب ہو جانا، چھپ جانا۔ لایَخفَی اَن: یہ بات مشہور ہے کہ، جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ، یہ عیاں ہے کہ، یہ آشکارا ہے کہ، یہ واضح ہے کہ۔ لایَخفَی علیكَ: تم اچھی طرح جانتے ہو، تم (سے) بخوبی واقف ہو۔ خفی ـِ خفیًا ہ: کو چھپانا، پوشیدہ رکھنا، کو مخفی رکھنا۔ اَخفَی ہ: کو چھپانا، پوشیدہ رکھنا، مخفی رکھنا۔ ــ ہ: کو چھپنے کی جگہ دینا، کو پناہ دینا، کو چھپانا۔ ــ ہ: کو مخفی رکھنا۔ ــ ہ علی/عن: کو سے چھپانا۔ اَخفَی الصوتَ: آواز نیچی کرنا، پست کرنا، دھیمی آواز سے بولنا، باتیں کرنا۔ تَخَفَّی: چھپنا، نظر نہ آنا، اپنے آپ کو چھپانا، بھیس بدلنا۔ اِختَفَی: چھپنا، نظر نہ آنا، دفعۃً غائب ہونا، نظروں سے اوجھل ہونا، فضا میں تحلیل ہو جانا، پوشیدہ ہونا، نامعلوم ہونا، نہ ہونا، ناکافی ہونا۔ اِختَفَی عن الانظار: نظروں سے اوجھل ہونا، چھپ جانا۔ اِستَخفَی: چھپنا، نظر نہ آنا، چھپا ہوا ہونا، پوشیدہ ہونا۔ ــ عن: کی نظروں سے پوشیدہ ہونا، کو نظر نہ آنا، کی نظروں سے اوجھل ہونا۔ خَفِیّ: چھپایا ہوا، پوشیدہ، نامعلوم، مخفی، ان دیکھا، غیر مرئی، جو نظر نہ آسکے، پر اسرار۔ خَفِیُّ الاسم: گمنام، غیر معروف۔ اَنوارٌ خَفِیَّۃ: بالواسطہ روشنیوں کا انتظام یا اثر۔ خُفیَۃً و خِفیَۃً: خفیہ طور پر، پراسرار طور پر، پوشیدہ، طور پر مخفی طور پر۔ خُفیَۃً عنہ: کے علم کے بغیر، کی اطلاع یا واقفیت کے بغیر۔ خَفِیَّۃ جمع خَفَایَا: راز، بھید، خفیہ معاملہ۔ خَفَاء: پوشیدگی، پردہ، رازداری، پردہ پوشی۔ فی الخفاء: پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر، پراسرار طور پر، مخفی طور پر۔ لاخَفَاءَ فی اَنَّ: یہ بالکل واضح ہے کہ، یہ ظاہر ہے کہ۔ اِخفَاء: اخفاء، چھپانا، پردہ داری، رازداری، پوشیدگی، آواز کی پستی۔ تَخَفٍّ: بھیس، بہروپ، سوانگ۔ اِختِفَاء: گمشدگی، نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ خَافٍ: پوشیدہ، چھپا ہوا، مخفی، غیر معلوم، ان دیکھا، غیر مرئی۔ خَافِیَۃ جمع خَوَافٍ: راز، بھید جمع الخَوَافِی: جھاڑی جنگل، پچھلے پر۔ مَخفِی: پوشیدہ، چھپا ہوا۔ مُتَخَفٍّ: بھیس میں، چھپا ہوا۔ مُختَفٍ: پوشیدہ، چھپا ہوا، مخفی، خفیہ، چوری چوری، چوری چھپے، نظروں سے اوجھل، فضا میں تحلیل ہونے والا۔ مُختَفًی: چھپنے کی جگہ۔

خق: خَقَّ ـِ خَقًّا و خَقَقًا و خَقِیقًا القدرُ: ہانڈی کا جوش کھانا اور سنسنانا۔

۲۔خَقَّ ـِ خَقًّا و خَقَقًا و خَقِیقًا البکرۃُ: چرخی کے سوراخ کا فراخ ہونا۔ اور محور سے ادھر ادھر ہونا۔ ــ السیلُ فی الارض: سیلاب کا زمین میں گہرا گڑھا کردینا۔ اَخَقَّتِ البَکَرَۃُ: چرخی کے سوراخ کا فراخ ہونا۔ الخَقّ جمع اَخقَاق و خُقُوق والاُخقُوق والاِخقِیق جمع اَخَاقِیق: زمینی شگاف، خشک تالاب۔

خقن: خاقان جمع خواقین: ہر بادشاہ کا نام اور اسم معرفہ۔ کہا جاتا ہے: خَقَّنَہُ القومُ علی انفسھم: عوام نے اسے اپنا بادشاہ بنالیا۔

○ خَاقَان: حاکم، سب سے بڑا سردار، فرمانروا، بادشاہ، شہنشاہ۔

خل: ا۔خَلَّ ـِ خَلًّا و خُلُولًا لحمُہُ: کے گوشت کا دبلا اور کم ہونا۔ اِختَلَّ لحمُہُ: دبلا ہونے کی وجہ سے کسی کے گوشت کا کم ہونا۔ الخَلّ جمع اَخُلّ و خِلال: دبلے جسم والا، لاغر، موٹا۔ الخَلَّۃ: ہلکی پھلکی عورت۔ الخَلِیل: لاغر بدن والا، نحیف الجسم۔

۲۔خَلَّ ـُ خَلًّا الشیءَ: کسی چیز میں سوراخ کرنا۔ الفصیلَ: اونٹ کے بچے کی زبان کو چیر کر دودھ سے روکنے کے لئے لکڑی ڈالنا۔ خَلَّلَ بینھما: کے درمیان جگہ کشادہ کرنا۔ ــ الاسنانَ: دانتوں میں خلال کرنا، دو دانتوں کے درمیان سے کھانے کے ریزے نکالنا۔ تَخَلَّلَ القومَ: قوم میں مل جانا، شامل ہو جانا۔ ــ الرجلُ: خلال کرنا۔ ــ الشیءُ فیہ: میں چیز کا گھسنا، نفوذ کرنا۔ ــ ہ بالرمح: کو پے در پے نیزہ مارنا۔ الخَلّ جمع اَخُلّ و خِلال: کپڑے کی پھٹن، شگاف، ریگستانی راستہ۔ الخَلَل جمع خِلال: دو چیزوں کے درمیان شگاف، رائے میں پراگندگی اور انتشار۔ الخَلَل واحد خِلَّۃ: دانتوں میں کھانے کے بقیہ ریزے۔ کہا جاتا ہے: ھو خِلَلُ القوم: وہ قوم کے درمیان ہے۔ الخَلَّۃ جمع خِلال و خَلَل: سوراخ۔ الخِلال جمع اَخِلَّۃ: سوراخ کرنے کا آلہ، لکڑی جو اونٹ کے بچے کی زبان میں لگائی جاتی ہے تاکہ وہ دودھ نہ پی سکے۔ ــ والخِلَالۃ: دانتوں کا خلال، دانتوں میں پھنسے ہوئے خوراک کے ریزے۔ خِلالُ الدیار: ملک کا اردگرد، گھروں کے درمیان، کہا جاتا ہے: ھو خِلالَھم: وہ انکے درمیان ہے۔ شیءٌ خلیلٌ: چھدی ہوئی چیز۔

۳۔خَلَّ ـُ خَلًّا فی دعائہ: اپنی دعا میں خاص ہونا (عام دعا نہ کرنا) خَلَّلَ فی دعائہ: اپنی دعا میں خاص ہونا۔ تَخَلَّلَ المطرُ: بارش کا خاص ہونا (یعنی کسی خاص جگہ پر برسنا)۔

۴۔خَلَّ ـُ خَلًّا الیہ: کا محتاج ہونا اَخَلَّ: محتاج ہونا۔ ــ ہُ اللّٰہُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو مفلس و محتاج کرنا۔ اُخِلَّ بالرجل: محتاج ہونا۔ اِختَلَّ الیہ: کا محتاج ہونا۔ الخَلَّۃ جمع خِلال و خَلَل: حاجت، مفلسی۔ الخَلِیل: مفلس، غریب الاَخَلّ: مفلس، غریب، کسی دوسرے سے زیادہ مفلس، رجلٌ مُخَلٌّ: مفلس آدمی۔

۵۔خَلَّلَ العصیرُ: رس کا ترش ہونا، خراب ہونا، سرکہ بننا۔ ــ العصیرَ: رس کو سرکہ بنانا۔ اِختَلَّ العصیرُ: رس کا سرکہ ہونا۔ ــ العصیرَ: رس کو سرکہ بنانا۔ ــ الرجلُ: سرکہ بنانا۔ الخَلّ جمع اَخُلّ و خِلال: سرکہ، کہا جاتا ہے مَالَہُ خلٌّ ولا خمرٌ: اس کے پاس نہ تو کوئی اچھی چیز ہے نہ بری۔ لستُ من ھذا الامر فی خلٍّ ولا خمرٍ: مجھے اس معاملہ کے نہ تو خیر سے کوئی مطلب ہے اور نہ شر سے کوئی کام۔ اُمُّ الخَلّ: شراب۔ الخَلَّۃ جمع خِلال و خَلَل: تھوڑا سرکہ، تھوڑی کھٹی شراب۔ الخَلّال: سرکہ بنانے والا، سرکہ فروش۔

۶۔خَالَّ مُخَالَّۃً و خِلالًا و خَلالًا ہُ: سے دوستی کرنا، بھائی بندی کرنا۔ تَخَالُّوا: آپس میں دوستی کرنا۔ الخِلّ: دوستی۔ کہا جاتا ہے۔ انہ لکریمُ الخِلّ: وہ شریف دل دوست ہے۔ ــ والخُلّ مونث خُلّ و خُلَّۃ جمع اَخلال: گہرا دوست۔ الخُلَّۃ: دوستی، دوست (واحد تثنیہ مذکر مونث جمع سب کے لئے) (جیسے ھو و ھی و ھن خلتی: وہ مرد وہ عورت وہ عورتیں میری دوست ہیں) سہیلی، بیوی۔ الخُلَّۃ جمع خُلَل و خِلال: دوستی، بھائی بندی۔ الخلیل جمع اَخِلّاء و خُلَّان مونث خلیلۃ جمع خلیلات و خَلَائِل: خاص دوست۔ الخَلالۃ و الخِلالۃ و الخُلالۃ: پکی دوستی۔

۷۔اَخَلَّ بالشیءِ: میں کوتاہی کرنا، کو ترک کردینا، چھوڑ دینا۔ ــ بمرکزہ: اپنی جگہ چھوڑ دینا۔ ــ بقومہ: قوم کو چھوڑ کر چلا جانا، غائب ہو جانا۔ ــ بالامر: کو

بگاڑنا، برے طریقے سے انجام دینا۔ ـــبالرجل: کو اس کا پورا حق نہ دینا۔ ـــالوالي بالثغور: حاکم کا سرحدوں پر لشکر کم کردینا۔اِختَلَّ الامرُ سست اور خراب ہونا۔ ـــعقلُهُ: کی عقل خراب ہوجانا۔الخَلَل جمع خِلال: سستی، خرابی۔

۸۔الخَلّ جمع أخُلّ و خِلال: بوسیدہ کپڑا۔الخُلّة جمع خُلَل: گھاس جس میں مٹھاس ہو، عادت، خصلت۔الخَلّة جمع خِلال و خَلَل: خصلت، عادت۔الخِلّة جمع خِلَل و خِلال: چمڑے سے منڈھا ہوا تلوار کا میان، پرنقش دار چمڑا۔

۹۔خَلْخَلَ العظم: ہڈی کا گوشت اتارنا۔

۱۰۔خَلْخَلَ المرأةَ: عورت کو پازیب پہنانا۔تَخَلْخَلَت المرأةُ: عورت کا پازیب پہننا۔الخَلْخال جمع خلاخِیل و الخَلخل والخُلْخُل جمع خلاخِل: پازیب۔المُخَلْخَل: پنڈلی پر پازیب پہننے کی جگہ۔

۱۱۔تَخَلْخَلَ الشیءُ: چیز کا پیوستہ اجزا والا نہ ہونا۔ ـــمکانه: اپنی جگہ سے ہلنا۔

۱۲۔تَخَلْخَلَ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ثوبٌ خَلْخَالٌ و خُلْخُلٌ: بوسیدہ کپڑا۔

○خَلَّ ـُ خَلًّا ه: کو چھیدنا، چیرنا۔خَلَّ: کھٹا ہوجانا، ترش ہونا۔ ـــه: کو ترش کرنا، کھٹا کرنا، کو ترشہ بنانا، تیزاب بنانا کا اچار ڈالنا، کو نمک لگانا، کو نمک سے درست کرنا، (دانتوں) میں خلال کرنا، میں انگلیاں پھیرنا، (بالوں، داڑھی) میں کنگھی کرنا۔ مانگ نکالنا، (خواہ انگلیوں سے)۔خَالَّ ه: سے دوست کا سا سلوک کرنا۔اَخَلَّ ب: کی قانون شکنی کرنا، کی خلاف ورزی کرنا، کو توڑنا، کی حد سے بڑھنا، (کسی قاعدہ، رسم وغیرہ) کی بے ادبی، بے حرمتی یا خلاف ورزی کرنا، یا کو توڑنا، (کسی معاہدے) کو پورا کرنے میں ناکام رہنا۔ ـــب: کو چھوڑ دینا، سے الگ ہوجانا کا ساتھ چھوڑ دینا، کو بیوفائی سے چھوڑ دینا، سے دغا کرنا، دست کش ہونا، کو نقصان پہنچانا، اوندھا کرنا، الٹ دینا۔ پریشان کردینا۔تَخَلَّلَ ه: کے درمیان میں ہونا، آنا یا پڑنا، کے بیچ میں ہونا، کے اثنا یا دوران میں ہونا، کے درمیان واقع ہونا۔ رکھا ہونا یا رکھا جانا، میں بھر جانا، سرایت کرنا، رچ بس جانا، پھیل جانا سے میل جول رکھنا، سے مل کر ایک ہوجانا، سے ملنا، باہم ملنا۔اِختَلَّ: ناقص ہونا یا ہوجانا، بے ترتیب ہونا، غلط ہونا، نامکمل ہونا، الٹ پلٹ ہونا غیر متوازن ہونا (نظام کا) درہم برہم ہونا۔اِختَلَّت الشروطُ: شرائط کا پورا نہ ہونا۔اِختَلَّ توازنُه: اپنا توازن کھودینا، غیر متوازن ہونا۔اِختَلَّ عقلُهُ: دماغی طور پر پراگندہ ہونا، خلل کا شکار ہونا، پاگل ہونا، دیوانہ ہونا۔خَلّ: سرکہ۔خِلّ وخُلّ جمع أخلال: دوست، دلی دوست، یار غار۔خَلَل جمع خِلال: درز، شگاف چاک، درمیانی وقفہ، فاصلہ، خلا، فتق ناقص اور غیر متوازن حالت، عدم توازن، عیب، ادھوراپن، کمی، خامی، غلطی، خطاء، قصور، خرابی، نقص، کمزوری، خلل، گڑبڑ، ہلچل، برہمی، الٹ پلٹ، بے ضابطگی، فساد نقصان۔خِلالَ: کے دوران میں، میں، کے درمیان، کے مابین۔فی خِلالِ: اور فی خَلَل: کے دوران میں کے اندر کے اندر اندر، کے دیئے ہوئے عرصہ میں۔فی خِلالِ ذلك: اس دوران، اس اثنا میں۔من خِلالِ: کے آر پار، ایک سرے سے دوسرے تک، کے درمیان سے، اندر سے، کی بنا پر، کے باعث، کی سند سے، سے (پہچاننے کے لئے)۔خَلَّة: ضرورت، حاجت، احتیاج، کمی، (جمع خلال): خاصہ، وصف، صفت، خصوصیت، طبیعت، مزاج، افتاد طبع۔خُلَّة جمع خُلَل: دوستی۔خِلال جمع أخِلّة: بورنگ کرنے یا سوراخ کرنے کا آلہ، میخ، سیخ (نیز خلالة جمع خلالات) خلال (دانتوں سے خوراک کے ریزے نکالنے والا)۔خَلیل جمع أخِلّاء و خُلّان: دوست، دلی دوست، یار غار، عاشق۔الخلیل: اردنی فلسطین کا ایک شہر جسے Hebron کہا جاتا ہے۔خلیلُ الله: حضرت ابراہیمؑ کا لقب۔خَلیلَة جمع خلیلات: سہیلی، گرل یا وومین فرینڈ، محبوبہ، آشنا، داشتہ۔ اُمُّ الخلول: ایک دریائی صدفی مچھلی۔اِخلال جمع اخلالات: خلاف ورزی (قانون، معاہدہ وغیرہ کی) جرم، گڑبڑ، نقصان مع عدم الاخلالِ ب: پر بیجا اثر ڈالے بغیر، کو ضرر پہنچائے بغیر۔اِختِلال: نقص، کوتاہی، کمی، کمزوری، خامی، خرابی، ادھوراپن، ناتمالی، خستہ حال، بوسیدگی، بگاڑ، ابتری، زوال، فساد، خلل، خلل اندازی، ہنگامہ، شورش، انتشار، پراگندگی، بے ترتیبی، ابتری، بدنظمی، فتنہ، فساد، افراتفری، الجھن۔مُخَلَّل: اچار ڈالا ہوا، نمک ڈالا ہوا، نمک مرچ ملا، (جمع مُخَلَّلات): اچار، چٹنی مربہ، تیزابی چیز، اچاری سبزیاں۔مُخِلّ: شرمناک، رسوائی کا موجب۔ ـــ بالآداب: غیر اخلاقی، فحش، ناشائستہ، نامناسب، ناموزوں۔

خلب: ۱۔خَلَبَ ـِ خَلْبًا بظفره: کو ناخن سے خراش لگانا، زخمی کرنا۔ ـــالسبعُ الفريسةَ: درندے کا اپنی شکار کو چنگل سے پکڑنا۔اِستَخلَبَهُ بظفره: کو ناخن سے خراش لگانا، زخمی کرنا۔الخِلْب جمع أخْلاب: ناخن خصوصا درندہ کا۔المِخْلَب جمع مَخالِب: ناخن (خصوصا درندہ کا) درانتی۔

۲۔خَلَبَ ـِ خَلْبًا الفتی: جوان کے دل کو موہ لینا، فتنہ میں مبتلا کرنا۔ ـــُ خَلْبًا و خِلابًا و خِلابَةً و خَالَبَ مُخالَبَةً و خَلَّبَ و اِختَلَبَهُ: کو نرم کلامی سے دھوکا دینا۔ صفت خالِب و خَلوب و خَلّاب و خَلَبوت مؤنث خالِبَة و خَلِبَة و خَلوب و خَلّابة و خَلَبوت۔الخِلْب جمع أخلاب: دل کے اوپر کی جھلی، جگر کے اوپر کی جھلی۔الخُلَّب: بے بارش کا بادل۔البرقُ الخُلَّبُ و برق الخُلَّب: بے بارش کے بادل کی بجلی۔ جو وعدہ کرکے پورا نہ کرے اسے کہا جاتا ہے انما انت كبرقِ خُلَّب۔الخُلُبوب: فریبی، دھوکا دینے والا۔الخِلِّيبَی: فریب، دھوکا۔

۳۔خَلِبَ ـَ خَلَبًا المراةُ: عورت کا بیوقوف ہونا۔الخَلْباء: بیوقوف عورت۔

۴۔أخْلَبَ الماءُ: پانی کا کیچڑ والا ہونا صفت مُخْلِب۔الخُلُب و الخُلْب: سیاہ کیچڑ۔الخُلُب والخُلْب: کھجور کے درخت کی چھال اور اس کی بٹی ہوئی رسی، کھجور کے درخت کا گودا۔الخِلْب جمع أخلاب: انگور کی بیل کے پتے۔المُخَلَّب من الثیاب: بہت نقش و نگار والا کپڑا۔

۶۔خَلْبَسَهُ او خَلْبَسَ قلبَهُ: کو یا کے دل کو فریفتہ کرنا۔الخُلابِس: نرم بات۔ ـــ و الخَلابِس: باطل اور جھوٹی باتیں۔الخَلابِيس: باطل اور جھوٹی باتیں، کمینے، رذیل لوگ۔

○خَلَبَ ـُ خَلْبًا ه: کو پنجوں، ناخنوں یا چنگل سے پکڑنا، چنگل میں لینا، مٹھی میں لینا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا۔ ـــُ خِلابَةً ه: کو پھسلانا، دھوکا دینا۔ جھانسا دینا، سے میٹھی میٹھی باتیں کرکے مطلب براری کرنا کی چاپلوسی کرنا خوشامد کرنا، کو فریب دینا نازنخروں سے رجھانا، بہکانا، دم دلاسا دینا، راضی کرنا میٹھی باتوں سے ورغلانا۔ ـــه او عقلَهُ: کو بہکانا، پھسلانا، ورغلانا، پٹی پڑھانا، سبز باغ دکھانا فریب دینا، گمراہ کرنا بہلانا، فریفتہ کرنا، موہ لینا، پر جادو کرنا، کو مفتون کرنا، گرویدہ کرنا، مسحور کرنا، کا دل لے لینا، کو عاشق بنالینا۔خَالَبَ ه: کو پھسلانا، دھوکا دینا، جھانسا دینا، کی چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا، کو فریب دینا نازنخروں سے رجھانا، بہکانا، راضی کرنا، ورغلانا، فریفتہ کرنا موہ لینا، پر جادو کرنا، کو

مفتون کرنا، گرویدہ کرنا، مسحور کرنا کا دل لے لینا، کو عاشق بنالینا۔اِخْتَلَبَ ہ: کو پنجوں، ناخنوں یا چنگل سے پکڑنا، چنگل میں لینا، مٹھی میں لینا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا۔–ہ: کی چاپلوسی کرنا، خوش آمد کرنا کو پھسلانا، بہکانا، ورغلانہ، پٹی پڑھانا، سبز باغ دکھانا فریب دینا، گمراہ کرنا، فریفتہ کرنا، موہ لینا، پر جادو کرنا کو مفتوں کرنا، مسحور کرنا، گرویدہ کرنا، کا دل لے لینا، کو عاشق بنالینا۔خِلب جمع اَخْلاب: ناخن، پنجہ، چنگل، برقٌ خُلَّبٌ و برقُ خُلَّب: بارش کے بغیر کوندہ، برق، بجلی، مایوس کن اور غلط فہمی دور کرنے والا معاملہ۔خُلّب و خُلَّب من برق: سراب، وسوسہ، وہم، خیال خام، مغالطہ، دھوکا فریب، فریب خیال، فریب نظر، خیالی پیکر۔فَشَكٌ خُلَّبِيّ: خالی کارتوس (جمع)۔خَلّاب: متوجہ کن، فریفتہ کن، دل موہ لینے والا مسحور کن، گرویدہ کن، دلکش، دلربا، دلفریب دلآویز، خوش ادا، ترغیب دہ، اکسانے والا رغبت دلانے والا، ورغلانے والا، ترغیب دلانے والا پھسلانے والا، متفنی، فریبی، دغاباز، مکار، حیلہ گر، گمراہ کن، فریب دہ، مانوس کن پرفریب، وہمی، بے اصل، غیر حقیقی، غلط، جھوٹا۔خَالِب: بمعنی خَلَّاب۔ خِلَابَة: دلفریب ادائیں، دلآویز انداز، کشش، دلکشی، دلفریبی، جادو سحر، افسون، دلربائی، دلبری، دل آویزی، حسن و جمال۔ مِخْلَب مَخَالِب: ناخن، پنجہ، چنگل۔

○تَخَلْبُصَ: بھانڈ جیسا رویہ اختیار کرنا۔خَلْبُوص جمع خَلَابيص و خَلَابصة: بھانڈ، مسخرا، نقال۔

خلج: ۱۔خَلَجَ ـِ خَلْجًاهُ: کو کھینچنا، کھینچ کر نکالنا۔–ہُ الامرُ: کام کا کسی کو مشغول کرنا۔کہا جاتا ہے خلجتهُ امورُ الدنيا: دنیا کے بکھیڑوں نے اس کو پھانس لیا۔ خَلِجَ ـَ خَلَجًا (طب): تکان یا چلنے سے ہڈیوں کا درد کرنا۔خَالَجَ قلبَهٗ امرٌ: امر کا دل کو فکر وسوچ میں الجھا دینا۔تَخَلَّجَ: کبھی دائیں کبھی بائیں جھکنا، ہلنا، لوٹ پوٹ ہونا ہلنا، جھولنا–الشیءَ: کو کھینچنا، نکالنا۔ تَخَالَجَ تْهُ الهمومُ: کو غموں کا آگے پیچھے کھینچنا۔کہا جاتا ہے تَخَالَجَ في صدري شيءٌ: میرے دل میں کچھ خلجان ہوا۔اِختَلَجَ الشیءَ: کو نکالنا، کھینچنا۔ –الشیءُ فی صدرہ: کسی چیز کا کسی کو مشغول کرنا، آگے پیچھے کھینچنا۔اُخْتُلِجَ من بينهم: لوگوں میں سے کسی کا مرنا۔الخَالِج (فا): موت الخَلِيج جمع خُلْجَان و خُلُج: رسی۔الخُلُج: مشکوک النسب لوگ۔الأَخْلَج: رسی۔

۲۔خَلَجَ ـُ خَلْجًا الشیءَ: کو ہلانا، حرکت دینا–ہُ بعينه: کو آنکھ مارنا، آنکھ سے اشارہ کرنا۔–خَلَجًا و خُلُوجًا و خَلَجَانًا العينُ: آنکھ کا پھڑکنا۔ اَخْلَجَ حاجبيه: ابرؤوں کو مٹکانا۔تَخَلَّجَ: مضطرب ہونا، حرکت کرنا۔اِخْتَلَجَ: جھڑ جانا۔–تِ العينُ: پلکوں کا خود بخود پھڑکنا۔الخُلُج: کانپنے والے بدن کے لوگ۔

۳۔خَلَجَ ـِ خَلْجًاهُ: کو تلوار سے مارنا۔

۴۔خَلَجَ ـِ ـُ خَلْجًا الولدَ: بچے کا دودھ چھڑانا۔اِختلج الولدَ: بچے کا دودھ چھڑانا۔

۵۔خَلِجَ ـَ خَلَجًا الشیءُ: بگڑنا، خراب ہونا۔

۶۔الخليج جمع خُلْجَان و خُلُج: چھوٹی کشتی۔ندی۔ –من البحر: کھاڑی۔خليجا النهر: دریا کے دونوں کنارے۔الاُخْلِيج من الخيل: تیز رفتار گھوڑا۔(ن): ایک قسم کی گھاس۔

○خَلَجَ ـِ خَلْجًا و خَالَجَ ہ: کے ذہن پر ہونا، (پریشانیوں شکوک وشبہات وغیرہ کا)، کسی کو یا اس کے دل کو پریشان کرنا کسی خیال میں محو کر دینا، بدگمان کر دینا (احساس کا) کسی میں سرایت کرنا، رچ بس جانا، خَالَجَ قَلْبَهٗ: کے دل میں سب سے زیادہ اہم حیثیت کا حامل ہونا۔ تَخَلَّجَ: ہلنا، ہلچل پیدا ہونا۔لوٹ پوٹ ہونا، جھولنا۔اِخْتَلَجَ: کانپنا، ہلنا، کپکپی طاری ہونا، کپ کپانا کپکپی لگنا، (آنکھ، جسم، عضو کا) پھڑکنا۔ –ہ فی: (احساس کا) دل یا کسی چیز میں روح پھونکنا، کو متحرک کرنا، جوش میں لانا، میں روح پھونکنا، جوش پیدا کرنا، سرائیت کرنا، رچ بس جانا، پھیل جانا، پر قابض ہونا۔اِخْتَلَجَ غمًّا: (دل کا) غم سے بھر جانا۔ خَلْجة جمع خَلَجَات: جذبہ، احساس، جوش، ولولہ، جذباتیت، ضمیر کی خلش، شک شبہ، بے اعتمادی۔ خَلِيج جمع خُلُج و خُلْجَان: خلیج، کھاڑی، نہر۔ الخليج: قاہرہ کی قدیم شہری نہر کا نام جو متروک ہونے کے بعد انیسویں صدی کے اختتام پر ہموار کر دی گئی۔الخليج الفارسي: خلیج فارس۔خِلَاج: شک، بے اعتمادی، شک شبہ، پس و پیش، جھجک، خدشہ، اندیشہ، وسوسہ ضمیر کی خلش۔اِخْتِلَاجَة: کپکپی، تشنج، ہچکولہ، دھچکا، پھڑک، لرزہ، تھرتھراہٹ، رعشہ۔ خَالِجَة جمع خَوَالِج: جذبہ، احساس جوش ولولہ، پس و پیش، جھجک، احتیاط، ضمیر کی خلش اندیشہ، وسوسہ، خدشہ، خیال۔

خلد: ۱۔خَلَدَ ـُ خُلُودًا: ہمیشہ رہنا۔–خَلْدًا و خُلُودًا: زیادہ عمر ہونے کے باوجود کسی کو بڑھاپا اور کمزوری نہ آنا۔صفت خَالِد و مُخْلِد و مَخْلَد و مُخَلَّد۔خَلَّدَ و اَخْلَدَهُ: کو ہمیشہ کے لئے رکھنا۔ الخُلُد: ہمیشگی، دوام، بقاء۔الخَلَد: ہمیشہ رہنے والا۔الخَالِدَة (ن): آرائش کے لئے لگایا جانے والا ایک پودہ جس کے پھول عرصہ تک رہتے ہیں۔ الخَوَالِد: پتھر، پہاڑ۔

۲۔خَلَدَ ـُ خَلْدًا و خُلودًا الی المکان و بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔–اِلی الأرض: زمین سے چمٹنا۔خَلَّدَ الی المکان و بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔اَخْلَدَ بصاحِبِهِ: کے ساتھ رہنا۔ –اليه: کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔–اِلی المکان و بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔

۳۔الخُلْد جمع خِلَدَة: کنگن، بالی۔جمع مناجِذ (غیر لفظ سے) (ح): چھچھوندر۔خُلْدُ الماء (ح): زمین اور پانی کے کترنے والے جانور کی ایک قسم۔ الخَلَد: مزاج، دل۔کہا جاتا ہے لم يَدُر هذا الامُر في خَلَدِي: یہ بات میرے دل میں نہیں آئی۔الخَلَدَة: کنگن، بالی۔ابُو خالد: کتا (کتے کی کنیت)۔

○ خَلَدَ ـُ خُلُودًا: ہمیشہ کے لئے رہنا، قائم، باقی یا زندہ رہنا، دائمی ہونا، ابدی ہونا، لازوال ہونا لافانی ہونا، زندہ جاوید ہونا، امٹ ہونا، امر ہونا، جاودانی ہونا۔ –الی/ب: میں یا کے پاس ہمیشہ کے لئے اقامت گزین ہونا۔–الی/ب/فی: کسی جگہ رہنا، قیام کرنا۔ خلد اِلی الراحة: آرام کرنا، ستانا۔خلد اِلی النوم: سونے کے لئے لیٹنا۔خَلَّد ہ: کو ابدی، دائمی، امٹ یا لازوال، بنانا، باقی رکھنا، قائم رکھنا۔ –ہ: کو لافانی، ابدی، امٹ یا زندہ جاوید بنانا، کو ابدی شہرت کا مالک بنانا۔ہ: (یادداشت حافظہ کا) کو امٹ بنانا، ناقابل فراموش بنانا۔–ب: کسی جگہ میں رہنا، قیام کرنا، رہنا، کے چکر کاٹتے رہنا۔–: بہت بوڑھا ہو جانا، لمبی زندگی سے متمتع ہونا، طویل العمر ہونا۔ اَخْلَدَ ہ/ ہ: کو ابدی، دائمی یا امٹ بنانا، ابدی زندگی عطا کرنا، کو ابدی شہرت کا مالک بنانا، لافانی یا زندہ، جاوید بنانا۔–ہ: کو باقی رکھنا، قائم رکھنا، مستقل بنانا۔ –اِلی/ب: کسی جگہ رہنا، قیام کرنا کے چکر کاٹتے رہنا۔–اِلی: کو کرنے کا خواہاں یا کو کرنے کو تیار ہونا، کی طرف مائل ہونا، میلان یا رجحان رکھنا، کی طرف میلان ہونا۔تَخَلَّدَ: ابدی، لافانی، امٹ ہونا، باقی ہونا، قائم ہونا، مستقل ہونا، طویل ہونا یا ہو جانا، پائدار ہونا، دائمی ہونا، دوامی ہونا۔خُلْد: لامحدود ولا متناہی مدت، دوران، نہ ختم ہونے والا وقت، دوام، ہمیشگی،

ابد، ابدیت، بقائے دوام، بڑا لمبا عرصہ، طویل مدت
دارُ الخُلد: بہشت، جنت، مستقبل، اخروی زندگی۔
خُلد: چھچھوندر۔ خَلَد جمع اَخلاد: ذہن، دل،
مزاج، نفس، روح جان۔ خُلُود: لامحدود لامتناہی
مدت، ختم نہ ہونے والا وقت، مداومت، بقا، ثبات،
ابدیت، دوام، ہمیشگی، ابدی زندگی، حیات جاودانی،
بقائے دوام پائداری، رہنا، قیام کرنا۔ تَخلید:
استمرار، دوام، ابدیت، حیات ابدی بخشنا، زندہ جاوید
کرنا، ابدی، دائمی امٹ، لازوال بنانا، باقی رکھنا، قائم
رکھنا۔ خالد: لافانی، امر، لازوال، قائم، دائم، زندہ
جاوید، امٹ، پائدار ابدی، لایزال، جاوید، غیرفانی،
دائمی، دوامی، استمراری متواتر، مسلسل، ناقابل
فراموش، مشہور ومعروف حوالد پہاڑ (جمع)
الحرابر الخالدات جرائم کبیری۔ مُخلِد الی
(کا) خواہاں، (کے لئے) تیار، (کی طرف) مائل،
(کی طرف) رجحان رکھنے والا۔

حلر الخُلَّر (ن) ایک پودہ۔ بعض کے نزدیک لوبیا، ماش۔

خلس ۱۔ خَلَسَ - خَلسًا و خِلِّیسَی الشیءَ: کو
چھپا مار کر چھین لے جانا۔ خَالَسَ مُخالَسَةً ہ: کو
جلدی کرنا کہا جاتا ہے: خالسۃُ النظرَ: پر دزدیدہ اور
اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا۔ تخالَسَ القومُ الشیءَ: کو
ایک دوسرے سے چھیننا۔ کہا جاتا ہے: ہُما یتخالسان
انفسهما: وہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در
پے ہیں۔ اِختلَسَ الشیءَ: کو دھوکے سے یا چھپا مار
کر چھین لینا۔ الخُلسة: جھپٹ، چھپی ہوئی چیز،
مناسب موقع، فرصت، کہا جاتا ہے۔ الخُلسۃ
سریعۃ الفوت بطیئۃ العَود: مناسب موقع اس
شخص کے ہاتھ سے تیزی سے نکل جاتا ہے جو اس سے
ٹھیک طور پر فائدہ نہ اٹھائے۔ اور دیر سے ہی دوبارہ ملتا
ہے۔ الخَلِیس و الخُلاس: چوکنا بہادر۔

۲۔ اَخلَسَ الرأسُ: سر کے بالوں کا کچھ حصہ سفید ہونا
صفت: خَلس و خَلِیس و مُخلِس۔ -النبتُ:
خشک اور تر گھاس کا ملا جلا ہونا۔ -ت الارضُ: زمین
کا سبزہ اگانا۔ الخِلاسیّ: کالے اور گورے ماں باپ
کا بیٹا۔

۳۔ اِختَلَسَ القاریُ الحرکۃَ: قاری کا حرکت کو پُر نہ
پڑھنا۔ اس کے مقابل الاشباع ہے جو حرکت اس
طرح پڑھتا ہے کہ وہ حرف مد ہو جاتا ہے۔

○ خَلَسَ - خَلسًا ہ: کو اچانک یا دھوکے سے لے
لینا، چھوٹی (چیز کی) چوری کرنا، کو چرانا، کی چوری کرنا۔
خالسۃُ النظَر: پر اچٹتی نظر ڈالنا، دزدیدہ نظر ڈالنا۔
اِختلَسَ ہ: کو اچانک یا دھوکے سے لے لینا، چھوٹی
(چیز کی) چوری کرنا، کو چرانا، کی چوری کرنا، کو جھوٹے
بہانے یا چالبازی سے لینا، کو غبن کرنا، خورد برد کرنا،
(گھنٹوں) کو پوشیدہ طور پر صرف کرنا۔ اِختلَسَ
الخُطی الی: آخری لمحہ تک اوجھل رہ کر خاموشی سے
کسی شخص یا چیز تک پہنچنا۔ اِختلَسَ النظرَ الی (فی):
پر دزدیدہ اچٹتی نظر ڈالنا۔ خُلسةً: چوری چھپے، چپ
چاپ، چھپ چھپا کر۔ خِلاسِی: یوریشی، یورپی اور
حبشی مخلوط النسل کا۔ اِختلاس جمع اِختلاسات:
غبن، خورد برد، خیانت۔ مُختَلِس: خیانت کرنے،
غبن کرنے والا۔ مُختَلَس: چرایا ہوا، دھوکے سے یا
اچانک لیا ہوا۔

خلص ۱۔ خَلَصَ - خُلُوصًا و خَلاصًا: خالص ہونا
-الماءُ من الکدر: پانی کا صاف ہونا۔ خَلَّصَ
الشیءَ: چیز کو صاف کرنا، آمیزش سے پاک کرنا، کا
خلاصہ لینا۔ خَالَصَ مُخالَصَۃً ہ فی العشرۃ
او المودۃ: سے معاملہ میں صفائی برتنا، سے خالص
دوستی کرنا۔ -الوُدَّ: سے خالص دوستی کرنا۔ أَخلَصَ
الشیءَ: کا خلاصہ نکالنا، کو چن لینا۔ -ہ اللّٰہُ: کو
عیوب سے خالی چننا۔ الطاعۃَ و فی الطاعۃ:
اطاعت میں ریاکاری نہ کرنا۔ -لہ الحبَّ او
القولَ: سے محبت یا بات کو کھوٹ سے خالی کرنا۔
تخالَصَا: ایک دوسرے کے ساتھ صفائی کا برتاؤ کرنا،
خالص دوستی کرنا۔ اِستخلَصَ ہ: کو چن لینا۔ -الشیءَ
منہ: کو سے واپس لینا، حاصل کرنا۔ الخَلَص:
ہر سفید شے۔ الخِلص جمع خُلَصاء و الخُلصان:
یار مخلص دوست۔ خُلصان مفرد اور جمع ہر دو کے لئے
استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ہو خُلصانی و ہم
خُلصانی: وہ میرا مخلص دوست ہے۔ وہ میرے مخلص
دوست ہیں۔ الخَالِص (فا) جمع خُلَّص: بے
کھوٹ، صاف رنگ۔ کہا جاتا ہے۔ هذا ثوبٌ
خالِصٌ: یہ صاف (سفید) رنگ کا کپڑا ہے۔
الخالِصۃ: خالص کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے۔ ہو
خالِصتِی: وہ میرا یار ہے، مخلص دوست ہے۔ هذا
لشیءٌ خالصۃٌ لك: یہ چیز تمہارے لئے خالص
ہے۔ الخُلُوص: کھجور سے تیار کی ہوئی رب، صاف
گھی کے نیچے رہ جانے والی تلچھٹ۔ الخَلاص
و الخِلاص: کھوٹ سے خالی (سونا، چاندی، مکھن
وغیرہ) الخُلاصۃ و الخَلاصۃ: خالص گھی، پھر ہر
چیز پر اس کا اطلاق ہونے لگا جو غیر کی آمیزش سے
پاک ہو۔ خُلاصۃُ الکلام: ماحصل (گفتگو کا)۔
الإخلاص و الإخلاصۃ: تلچھٹ سے صاف کیا ہوا
مکھن۔ کلمۃ الاخلاص: لا الٰہ الا اللّٰہ۔

۲۔ خَلَصَ - خلوصاً و خَلاصًا من الھلاك: ہلاکت
سے نجات پانا، محفوظ رہنا۔ خَلَّصَہ من کذا: کو
سے نجات دینا۔ تخلَّصَ منہ: سے نجات پانا۔
الخَلاص: نجات۔ (آپ کہتے ہیں: الخلاص
من الاَخطار: خطروں سے نجات۔ یوم
الخَلاص: یوم نجات۔) اچھی آخرت کا حصول۔
ہم کہتے ہیں: الخلاص الابدیّ: اچھی ابدی
آخرت۔ المُخلِّص: حضرت مسیح کا لقب بمعنی نجات
دہندہ۔

۳۔ خَلَصَ - خُلُوصًا و خَلاصًا الی المکان و
بالمکان: کسی جگہ پہنچنا۔ تخلَّصَ من کذا الی
کذا: سے تک منتقل ہونا۔

۴۔ خَلَصَ - خُلُوصاً و خَلاصًا من القوم: لوگوں
سے جدا ہونا۔ خَلِصَ - خَلَصًا اللحمُ: گوشت
میں ہڈی کا ٹوٹ جانا۔ تخلَّصَ منہ: سے جدا ہونا۔

۵۔ خَلَّصَ الرجلُ: مشکل چیز دینا۔

○ خَلَصَ - خُلُوصًا: خالص ہونا، آمیزش کے بغیر
ہونا۔ -الی: کسی شخص کی ملک ہونا، کا رکن یا فرد
ہونا، کا رکن یا فرد ہونا، کے پاس پہنچنا، آنا، کسی جگہ آنا۔
-خلاصاً من: سے آزاد ہونا یا بچ جانا، سے نجات
پانا، چھٹکارا پانا، سے بچ جانا، بچ نکلنا۔ -نجات پانا،
بخشا جانا، ختم ہونا، مکمل ہونا۔ خَلَّصَ ہ: کو صاف کرنا،
پاک کرنا، خالص بنانا، کی تصحیح کرنا (صورت حال) کو
واضح کرنا۔ -ہ من: کو سے آزاد کرنا، چھٹکارا دلانا،
نجات دینا، بچانا۔ -(مسیحیوں کے نزدیک مسیح کا)
بخشوانا، نجات دلانا۔ -علی: پر پیشگی محصول ڈاک ادا
کرنا۔ -علی البضائع: مال، سامان تجارت پر
محصول ادا کرنا، سامان تجارت (محصول وغیرہ ادا کر
کے) چھڑانا۔ -ہ بل ادا کرنا، کو ختم کرنا۔ خَلَّصَ
حقَّہ: اپنا حق بحال کرنا، اپنے واجبات حاصل کرنا۔
خَالَصَ ہ: کے ساتھ اخلاص برتنا، دیانتداری کرنا،
کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنا، سے حساب برابر لینا۔
اَخلَصَ ل ہ: کے لئے کچھ وقف کرنا۔ -ل: سے
وفادار ہونا، کا جانثار ہونا، کا وفادار ہونا۔ اَخلَصَ لہ
الحبَّ: سے سچی محبت کرنا۔ اَخلَصَ للّٰہ دینَہُ: اللّٰہ
تعالٰی کی دل اور اخلاص سے عبادت کرنا۔ تخلَّصَ
من: سے چھٹکارا حاصل کرنا، سے آزاد ہونا، سے
نجات حاصل کرنا، سے بچنا، محفوظ ہونا۔ تخالَصَ:
باہم، ایمانداری اور خلوص سے کام کرنا، برابر حساب

لینا۔اِستَخلَص ہ من: کو سے نکالنا، زبردستی حاصل
کرنا، کا سے استخراج کرنا، استنباط کرنا، کو سے نقل کرنا،
کا سے اقتباس کرنا، انتخاب کرنا، کو کا لب لباب کے طور
پر لینا، کو سے اخذ کرنا، کو سے حاصل کرنا۔ ــــ ہ: کو
دریافت کرنا، کا انکشاف کرنا، کو معلوم کرنا، کو چننا، منتخب
کرنا۔ کی رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کرنا اور اسے سے لینا۔
استخلص فائدة من سے فائدہ اٹھانا۔استخلص
منه وعداً: سے وعدہ لینا۔خَلاص: آزادی، نجات،
بریت، خلاصی، چھٹکارا، رہائی۔ ــ من: سے رہائی،
نجات، رستگاری، مکتی، (عیسائی عقیدہ کے مطابق)
خلاصی، کفارہ، چھٹکارا، شفاعت، ادائیگی، بل کی بے
باقی، ادائیگی رسید، آنول، نال، وہ جھلی جس کے اندر
بچہ رحم میں لپٹا رہتا ہے۔خُلاصَة جمع خلاصات
اقتباس، انتخاب نچوڑ، جوہر، روح، اصل، لب لباب،
خلاصہ، ملخص، ماحصل، اہم نکات، تلخیص، خاکہ مختصر
صورت۔خلاصة نهائية: پیش کردہ شہادت کا
خلاصہ۔خلاصة عطرية: خوشبو کا ست۔
والخلاصة: مختصراً ایک لفظ میں۔خَلِیص جمع
خُلَصَاء: خالص، صاف، بے کھوٹ، بے ملاوٹ،
مخلص، وفادار، وفادار پیرو، حمایتی۔خُلُوص: صفائی،
پاکیزگی، اخلاص، سچائی، کھرا پن، صاف دلی، اخلاص
مندی، راست بازی۔خَلّاص: ٹیکس جمع کرنے والا۔
ٹیکس کلکٹر۔مَخلَص: محفوظ جگہ، جائے پناہ، فرار،
رہائی، نجات، مکتی، بریت، خلاصی، چھٹکارا۔
تخلیص: صاف کرنا، پاک کرنا، خالص بنانا، تصحیح،
چھانٹنا، معطر کرنا، توضیح، وضاحت، آزادی، مخلصی،
رہائی، خلاصی سلجھاؤ، تربیت، مکتی، ادائیگی بے باقی۔
ــ علی: پر ڈاک محصول کی پیشگی ادائیگی۔ ــ علی
البضائع: سامان تجارت پر محصول، کسٹم وغیرہ کی
ادائیگی اور (ادائیگی کے بعد) مال چھڑانا جسے کلیرنس
کہتے ہیں۔ تخلیصُ البضائع: بھی کہا جاتا ہے۔
مُخالَصَة جمع مُخالَصات: رسید۔ اخلاص:
مخلصانہ محبت، وفادارانہ وابستگی، مخلصانہ لگن، خلوص،
صاف دلی، صاف گوئی، حق گوئی، بے لاگ پن، غیر
جانبداری، سے وفاداری، خیر خواہی، ایمانداری کی
فرمانبرداری، کی اطاعت۔ تَخَلَّص من: سے
آزادی، نجات، فرار۔استخلاص: انتخاب، نچوڑنے
یا کھینچنے کا عمل، اقتباس، نسب، اخذ، استنباط، اشتقاق،
نتیجہ، قیاس، (روپیہ) جمع کرنا۔خالِص جمع
خُلَّص: صاف، پاک، بے آمیزش، بے ملاوٹ
مخلص، صاف دل، صادق، راست گو، صاف گو، سچا،

ــ من: سے آزاد، مستثنیٰ۔خالِصُ الأجرة: جس پر
ڈاک خرچ معاف ہو، ٹکٹ لگانے کی ضرورت نہ ہو۔
خالِصُ الرَّدِّ: پیشگی ادائیگی کیا ہوا، جوابی تار خط
وغیرہ، جس کی ادائیگی کی جا چکی ہو۔خالِصٌ من
الكُمُرك: محصول معاف (سامان)۔خالِص
الضريبة: ٹیکس سے مستثنیٰ۔مُخلَّص (علیه): جس
پر ڈاک خرچ کی ادائیگی کی جا چکی ہو۔مُخلِص: نذر
کیا ہوا، فدا، قربان، جانثار، مخلص، صاف گو، صاف
دل، صادق، کھلا، وفادار۔ ــ لہ: کا وفادار۔
پاک دل، راست باز، نیک، صالح، نیکوکار، پاک دامن
پاکباز، متقی۔المخلص: (خط و کتابت میں) آپ کا
مخلص۔مُستَخلَص جمع مستخلصات: اقتباس،
انتخاب۔

خلط ۱۔خَلَطَ ـ خَلْطاً و خَلَّطَ الشيءَ بالشيءِ:
ایک چیز کو دوسری سے ملانا۔خالَطَ مُخالَطَةً و
خِلاطاً ہ: سے مخلوط ہونا، کی ملاوٹ والا ہونا، آمیزش
والا ہونا سے ملنا، میں ملاپ کرنا، کے ساتھ رہنا،
ــ الداءُ فلاناً: بیماری کا کسی میں اثر جا لینا۔
تَخالَطوا: آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل
جانا۔اِختَلَطَ: ملنا، ملا جلا ہونا۔ ــ الظلامُ: تاریکی کا
سخت ہونا۔الخِلْط: لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے
والا چاپلوسی کرنے والا۔الخِلْط جمع أخلاط: ہر
وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جائے، حرامی۔ کہا
جاتا ہے رجل خِلْط مِلْط: مخلوط نسب والا
آدمی۔الأخلاط: ملی جلی قسمیں۔أخلاطُ القوم:
اوباش، لچے لوگ۔ ــ الجسد (في عرف
الأقدمين): بدن کے چار اخلاط: خون، بلغم، سوداء،
صفراء۔الخُلطة: شرکت۔الخِلاط: آدمیوں اور
مویشیوں کا ملا جلا گروہ۔الخليط جمع خُلُط و
خُلَطاء: خلط ملط رکھنے والا، شریک، شوہر، ساتھی،
پڑوسی، بھوسا ملی ہوئی مٹی، لوگ جن کا معاملہ ایک ہو۔
کہا جاتا ہے خليط من الناس: اوباش لوگ۔
خليطُ الرجل: میں جول رکھنے والا جیسے ہم نشین،
ساتھی۔المِخلاط و المِخلَط: بہت میل جول
رکھنے والا۔جملٌ مُختلِط: موٹا فربہ اونٹ، جس کی
چربی گوشت کے ساتھ مل گئی ہو۔الخُلَّيطى
والخُلَيطَى۔ اوباش۔ کہا جاتا ہے: وقعوا في
خُلَيطَى: لوگ گڑبڑ میں پڑ گئے۔

۲۔خُولِطَ في عقله: مخبوط الحواس ہونا۔خلَّطَ في
الشيء: چیز کو خراب و فاسد کرنا کہا جاتا ہے۔خلَّطَ
المريضُ: بیمار نے مضر چیز کھائی۔خلَّطَ في
الكلام: اس نے بکواس کی۔اِختُلِطَ الرجلُ: کی
عقل خراب ہو جانا۔الخِلْط: احمق۔کہا جاتا ہے۔
هو خِلْطٌ بينُ الخَلاطة: وہ احمقوں میں ایک احمق
ہے۔یعنی کھلا بیوقوف ہے۔الخَلِط: احمق۔
الخَلاطَة: عقل کی خرابی، حماقت۔

۳۔اِختَلَطَ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنے میں کوتاہی اور
کمزوری دکھانا۔اختلط الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنے
میں کوتاہی اور کمزوری دکھانا۔

۴۔الخِلْط: تیز حا تیر و کمان۔

ⓒ خَلَطَ ـ خَلْطاً ہ ب: کو میں ملانا، کو باہم ملانا، کو
ملانا، کا مرکب بنانا۔ ــ بین: دو چیزوں کو خلط ملط کرنا،
گڈمڈ کرنا، ایک جان کرنا۔ ــ بین و: دو چیزوں
کو خلط ملط کرنا، گڈمڈ کرنا، ایک جان کرنا۔ ــ بین و
ــ: غلطی سے کسی کو کوئی اور سمجھ بیٹھنا۔خلَّطَ ہ: کو
ملانا، کو باہم ملانا، ملانا، کا مرکب بنانا۔ ــ: گڑبڑ پیدا
کرنا ابتری پیدا کرنا۔خالَطَ ہ: کو میں ملانا، کو باہم
ملانا، کو ملانا میں مدغم کرنا، کو ایک کرنا، میں خواہ مخواہ دخل
دینا، سے ٹکرانا، متصادم ہونا۔ ــہ: کے ساتھ گھل مل
جانا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سے متعلق ہونا۔خالَطَ
نفسَهُ: تکلیف وغیرہ کا کسی پر پڑنا، حملہ کرنا۔خُولِطَ
في عقلِهِ: مخبوط الحواس ہونا۔اِختَلَطَ: مل جانا، ملا
جلا ہونا، ملاوٹ والا ہونا، مرکب ہونا، امتزاج ہونا۔
مختلف العناصر آمیزہ پر مشتمل ہونا، رنگا رنگ ہونا، بو
قلموں ہونا، معجون مرکب ہونا، مخلوط ہونا، گڈمڈ ہونا
ــ ب: کا باہم صحبت ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سے
گہرے دوستانہ تعلقات ہونا۔ ــ: بوکھلانا، پریشان
ہونا، الجھ جانا۔خَلْط: ملانا، مرکب بنانا، میل، اتحاد،
ــ ب: سے آمیزش کرنا، امتزاج کرنا۔خَلْط: گڈ
مڈ کرنا، درہم برہم کرنا، حیران کرنا، زک پہنچانا، کچھ کا
کچھ سمجھنا، رائے قائم کرنے میں غلطی کرنا، بوکھلاہٹ،
الجھن، خلط ملط ہونا۔ ــ خِلْط جمع خِلاط:
آمیزہ کا جز، عنصر، مسالہ، مرکب میں ملائی جانے والی
چیز، (جمع (مرکب، آمیزش، امتزاج، اختلاط،
آمیزہ۔اخلاط الانسان: انسانی جسم کے چار
اخلاط: خون، بلغم، صفرا، سوداء۔اخلاط من
الناس: عام لوگ، عوام، اراذل، کمینے، گھٹیا لوگ،
ہجوم۔خلط مِلْط و خَلْط مَلْط: معجون مرکب،
خلط ملط، بے ترتیبی، مخلوط طور پر۔خَلْطة: آمیزہ،
امتزاج، معجون مرکب۔خُلْطة: ساتھ، رفاقت،
معیت، صحبت، آمیزہ۔خَلّاط و خَلّاطة جمع
خلّاطات: چیزوں کو باہم ملانے والی مشین۔ مکسر۔

Mixer خَلِیط: باہم ملا ہوا، مرکب، معجون مرکب، مخلوط ملا جلا، گڈ مڈ، مختلف قماش کے لوگوں کا مجمع، ملغوبہ۔ —مــن: کا آمیزہ، امتزاج۔ (جمــع خُلَطَاء): ساتھی، رفیق، ساجھی، شریک، ہم صحبت۔ تَخْلِیط جمع تَخلیطات: پاگل پن، دیوانگی، جنون، ہذیان۔ مُخَالَطَة: ساتھ، رفاقت صحبت معیت، باہمی روابط، باہمی تجارت، شرکت، ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اِختلاط: ملانے، مرکب بنانے (کا عمل) ملا جلا ہونا گھل مل جانا، باہم ملنا، الجھن، دماغی خرابی، (سماجی) روابط، شرکت، —بــہ: سے تعلقات۔ مَخْلُوطٌ جمع مَخَالِیط: آمیزہ، امتزاج، بھرت، معدنی آمیزش۔ مُخْلَّط: بوکھلایا ہوا، پریشان، گھبرایا ہوا۔ مُخَالَطٌ ب: کسی بیماری سے متاثر، تکلیف میں پڑا ہوا۔ مختلط: ملایا ہوا ملا ہوا، خلط ملط کیا ہوا، مخلوط، المحاکم المختلطة: مخلوط عدالتیں۔ تعلیم مُخْتَلِطَ: مخلوط تعلیم۔

خلع: ا۔ خَلَعَ ـَ خَلْعًا الشیءَ: کو اتارنا۔ —علیه ثوباً: کو خلعت بخشنا، —کتفهُ او وَرِکَهُ: کا کندھا یا کولہا اتارنا، کو اپنی جگہ سے ہٹانا۔ —القائد: قائد کو معزول کرنا۔ العذارَ: حیا کو خیرباد کہنا، اور اپنی خواہشات کا غلام بن جانا۔ کہا جاتا ہے: خلع یداً من طاعة: بغاوت کرنا۔ —الشجرُ: درخت کا اپنے پرانے پتے جھاڑنا۔ —الدابَّةَ: جانور کو بندش سے آزاد کر دینا، چھوڑ دینا، —خَلعًا و خُلعًا امراتهٗ: اپنی بیوی کو مال کے عوض طلاق دینا صفت مفعولی: خَالِع، اسم الخُلْعة۔ —ابنهُ: بیٹے کو عاق کرنا صفت مفعولی: خَلِیع (جاہلیت میں ایسا کیا جاتا تھا)۔ خُلِعَ المیتُ: میت کا کفن جدا کیا جانا۔ خَلَّعَهُ: کو الگ الگ کرنا۔ خَالَعَ الرجلَ: سے جوا کھیلنا۔ —الرجلُ زوجتهُ او المراةُ زوجَها: مال معین کے عوض خاوند کا بیوی سے یا بیوی کا خاوند سے جدائی اختیار کرنا۔ تَخَلَّعَ فی المشی: چلنے میں پیروں کو الگ الگ رکھنا۔ تَخَالَعَ الزوجُ و الزوجةُ: خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے سے مال پر جدائی اختیار کرنا۔ —القومُ: باہم عہد توڑنا۔ اِنْخَلَعَ: اپنی جگہ سے اکھڑ جانا، ہٹ جانا۔ اِخْتَلَعَ الشیءَ: کو نکال لینا، کھینچ لینا۔ —القومُ الرجلَ: کا مال لے لینا۔ —ت المراة من زوجها: عورت کا اپنے خاوند کا مال دیکر طلاق لے لینا۔ اسم: الخُلْع۔ الخُلَاع: ایک قسم کی دیوانگی جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ الخُلْعَةُ: عمدہ مال، کمزوری۔ کہا جاتا ہے: فیه خُلْعَةٌ: اس میں کمزوری ہے۔ الخِلْعَة: اتارا ہوا، کپڑا، انعام کے طور پر بخشی ہوئی پوشاک، عمدہ مال۔ الخَلِیع جمع خُلَعَاء: معزول کیا ہوا، پکا جوئے باز۔ ثَوبٌ خَلِیع: بوسیدہ کپڑا۔ الخَوْلَع: احمق۔ رجلٌ خَیْلَع: کمزور آدمی۔ المُخَلَّع من الرجال: کمزور ڈھیلے جوڑوں والا، اکھڑے ہوئے جوڑوں والا، وہ شخص جس کا پورا بدن یا کچھ حصہ بدن کا بے حس و حرکت ہو۔

۲۔ خَلُعَ ـُ خَلَاعَةً: خواہشات نفسانی کا غلام بننا، بے حیا ہونا۔ تَخَلَّعَ فی الشراب: شراب میں منہمک ہونا۔ الخَلِیع جمع خُلَعَاء: عیاش۔ الخَلِیعَة: خَلِیع کا مؤنث۔ خود مختار عورت جسے کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور وہ من مانی کرتی ہو بے حیائی۔

۳۔ خَلَعَ ـَ خَلْعًا الشجر: درخت کا نئے پتے اگانا۔ اَخْلَعَ الشجرُ: درخت کا نئے پتے اگانا۔ —السنبل: بالی میں دانے آنا۔

۴۔ الخَلِیع جمع خُلَعَاء: خبیث (ح): بھیڑیا، بھوت۔ الخَیْلَع: بے آستینوں کی قمیص۔ الخَوْلَع (ح): بھیڑیا (ط) آٹے سے تیار کیا ہوا ایک قسم کا کھانا، سرکہ میں جوش دیا ہوا گوشت جو سفروں میں ہمراہ رکھا جاتا ہے: —والخَیْلَع: دل پر چھا جانے والا خوف۔

○ خَلَعَ ـَ خَلْعًا ہ: لباس اتارنا۔ —طَرْبُوشَهُ: پھندنے دار یا ترکی ٹوپی اتارنا۔ —ہ: (دانت وغیرہ): اکھاڑنا، نکالنا —ہ: (جوڑ) کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، اتار دینا۔ —ہ مــن: کو اس کے منصب سے معزول کرنا: —ہ: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا سے دست بردار ہونا، سے قطع تعلق کرنا، دست کش ہونا، —عِذارَہ: پابندی، رکاوٹیں اتار پھینکنا، —الطاعة: فرمانبرداری، اطاعت سے انکار کر دینا۔ —ابنه: بیٹے کو عاق کرنا، بیٹے سے قطع تعلق کر لینا، اپنانے سے انکار کر دینا: —ها: بیوی سے مال لیکر اسے طلاق دے دینا۔ —ہ: کو ختم کرنا، (سخت دن) جھیلنا، —ہ علی: کو کچھ بتانا، ظاہر کرنا، کو کچھ عطا کرنا، بخشنا کو کچھ انعام کے طور پر دینا۔ خَلَعَ ثیابَهُ: کپڑے اتارنا۔ خَلَعَهُ من العرش: کو تخت سے اتارنا، معزول کرنا۔ خلع علیه خِلْعَةً: کو خلعت عطا کرنا۔ خلع علی نفسه حقًّا: ناجائز طور پر کے حق کا دعویٰ کرنا۔ خَلُعَ ـُ خَلَاعَةً: بدچلن، آوارہ، بدکار یا بدمعاش ہونا خراب چال چلن والا ہونا۔ خَلَّعَ ہ: کو لینا، ہٹانا، کو جگہ سے ہٹانا کو جگہ سے بے جگہ کرنا، جوڑ الگ کرنا، اتارنا۔ خُلِّعَ: جوڑ اترنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ خَالَعَ ها: بیوی کو مال کے عوض طلاق دینا، بیوی سے معاوضہ لے کر اسے طلاق دینا۔ تَخَلَّعَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ٹوٹ جانا جدا ہونا، جوڑ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اتر جانا۔ جوڑ میں موچ آ جانا۔ —: علاقہ میں چھٹیاں گزرنا، تَخَلَّعَ فی الشراب: شراب کا عادی ہونا، بہت شراب پینا۔ اِنْخَلَعَ: جگہ سے ہٹ جانا، بے جگہ ہونا، —مــن: سے محروم ہونا، کو کھو دینا، سے حق ساقط ہو جانا۔ اِنْخَلَعَ قَلْبُهُ: مکمل طور پر بھونچکا ہو جانا، دہشت زدہ ہو جانا، گھبرا جانا، حواس باختہ ہو جانا۔ خَلْع: کپڑے اتارنا، معزولی (حاکم کی)، ہڈی یا جوڑ کا اترنا یا اتارنا، موچ۔ خلع الاسنان: دانت اکھاڑنا۔ خُلْع: خلعہ، عورت کا مال کے عوض طلاق لینا۔ خِلْعَة: خلعت۔ خَلِیع جمع خُلَعَاء: معزول، برخواست شدہ، عہدہ سے سبکدوش کیا ہوا، عاق، جسے اپنانے سے انکار کیا گیا ہو، جس سے قطع تعلق کیا گیا ہو، بے حیا، بدکار، عیاش، بدچلن، اوباش، لفنگا، فاسق، فاجر۔ خَلَّاع: جنگلی، وحشی، آسانی سے قابو میں نہ آنے والا، آوارہ، اوباش، چنچل، من موجی، بے شرم، بے حیا، گستاخ، ڈھیٹ، خَلَاعَة: آوارگی، بدچلنی، عیاشی، مال و دولت اور طاقت کو عیاشی میں اڑانا، لفنگا پن، رندگی، بدکاری کسی علاقہ میں تفریح گرمیوں کی تعطیلات۔ خَوْلَع: بے وقوف، احمق، سادہ لوح۔ خَالِع العِذار: جسے روکا نہ گیا ہو، کسی پابندی کے بغیر، آوارہ، اوباش، عیاش، بدکار، لفنگا۔ مَخْلُوع: جسے روکا نہ گیا ہو، کسی پابندی کے بغیر، آوارہ، عیاش، جنگلی، وحشی، قابو میں نہ آنے والا، عاقبت نا اندیش، لاپروہ، غیر ذمہ دار، پاگل، سودائی۔

خلف: ا۔ خَلَفَ ـُ خِلَافَةً و خِلِّیفَی ہٗ: کا جانشین ہونا۔ —ہٗ ربُّهٗ فی قومه: اللہ تعالیٰ کا کسی کو اس کی قوم میں جانشین بنانا۔ —الرجلَ: کے بعد میں رہ کر اس کا قائم مقام ہونا۔ —خَلَفًا و خِلْفَةً تِ الفاکهةُ بعضها بعضًا: پھلوں کا ایک دوسرے کے قائم مقام ہونا۔ —خَلَفًا اباهُ: اپنے باپ کا جانشین ہونا یا قائم مقام ہونا۔ —فلانًا: کا جانشین ہونا۔ کہا جاتا ہے: خَلَفَ اللّٰهُ لك او علیك: اللہ تعالیٰ تمہیں عوض و بدلہ دے۔ خَلِفَ ـَ خَلَفًا تِ الناقةُ: اونٹنی کا حاملہ ہونا۔ خَلَّفَهُ: کو اپنا جانشین بنانا۔ اخلفت الشجرةُ: درخت کا کاٹی ہوئی شاخ کے بعد دوسری شاخ نکالنا۔ —الطائرُ: پرندے کا پہلے پروں کے بعد دوسرے پر نکالنا۔ —نفسه: ایک چیز کھونے کے بعد دوسری کو اس کا قائم مقام بنانا —اللّٰهُ علیه: کو اللہ تعالیٰ کا کھوئی

ہوئی چیز کا عوض و بدلہ دینا۔ اِخْتَلَفَہٗ: کا جانشین ہونا۔ اِسْتَخْلَفَہٗ: کو اپنا جانشین بنانا۔ ۔فلاناً من فلان: فلان کو فلان کا قائم مقام کرنا۔ ۔ت الارضُ: زمین کا خریف کی گھاس سوکھنے کے بعد گرمیوں کی گھاس اگانا۔ الخَلَفُ: بچہ، نیک بچہ، نسل، بعد میں آنے والا (کہاجاتا ہے: ھم کرام خَلَفاً عن سلفٍ: ان کو شرافت و بزرگی اپنے باپ دادوں سے وراثت میں ملی ہے۔ ھو خَلَفُ صدق عن ابیہ: وہ اپنے باپ کا اخلاق و صفات میں سچا جانشین ہے کسی کے بعد حاصل ہونے والی شیئے، بدل، عوض۔ کہا جاتا ہے: فی ھولاء القوم خلفٌ ممن مضی: اس قوم میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے اگلے کے جانشین ہیں۔ اعطاک اللّٰہُ خَلَفاً من تلفٍ: اللہ تعالیٰ تم کو ضائع شدہ چیز کا بدلہ وعوض عطا فرمائے۔ الخِلْف جمع اَخْلاف و خِلَفَۃ: گرمی کے موسم میں اگنے والی گھاس۔ الخِلْفَۃ: گرمی کے موسم میں اگی ہوئی گھاس، کہاجاتا ہے: جَعَلَ اللیل و النھارَ خِلْفَۃً: اللہ تبارک وتعالیٰ نے رات و دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ ھُنَّ یمشین خِلْفَۃً: وہ سب آگے پیچھے آجا رہی ہیں۔ الخَالِف (فا): جو ایک شخص کے جانے کے بعد بیٹھا رہے۔ الخَالِفَۃ: خالف کا مؤنث۔ ایک جماعت کے گزر جانے کے بعد باقی ماندہ جماعت۔ الخِلافۃ: امارت، جانشینی، امامت۔ الخَلِیْفَۃ جمع خُلَفاء و خلائف: جانشین، قائم مقام (پہلی جمع کے ساتھ عدد مذکر آتا ہے جیسے کہا جائے: ثلاثۃ خلفاء: دوسری جمع کے ساتھ عدد مذکر و مونث دونوں آ سکتے ہیں، جیسے۔ ثلاثۃُ و ثلاث خلائف) سب سے بڑا امام (یہ مذکر ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے: ھذا خلیفۃٌ آخر: کبھی لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے مونث مستعمل ہوتا ہے۔ جیسے: خلیفۃٌ اُخریٰ۔

۲۔ خَلَفَ ـِ خَلْفاً البیتَ: مکان کے پچھلے حصہ میں ستون لگانا۔ ۔عن اصحابہ: ساتھیوں سے پیچھے رہ جانا۔ ۔فلاناً: کو پیچھے سے پکڑنا۔ کہا جاتا ہے: خَلَفَ لہ بالسیف: کے پیچھے سے آکر اس کی گردن پر تلوار سے وار کرنا۔ کہا جاتا ہے: خَلَفَ لہ بخیر او شر: کے پیچھے یا کی غیر حاضری میں اس کا بھلا یا برا ذکر کرنا۔ خَلَّفَ الشیءَ: کو پیچھے چھوڑنا، مؤخر کرنا۔ خَالَفَ خِلافاً و مُخالَفَۃً عن کذا: سے پیچھے رہنا، ۔بین رجلیہ: ایک پاؤں کو آگے اور دوسرے کو پیچھے کرنا۔ آپ کہتے ہیں: خَالَفَنِی عن کذا: اس نے اس سے اعراض کیا جب کہ تم اس کا قصد کر رہے تھے۔

خالَفنی اِلیٰ کذا: اس نے اس کا قصد کیا اور تونے اعراض۔ اَخْلَفَہٗ: کو پیچھے ہٹانا۔ تَخَلَّفَ عنھم: کے پیچھے رہنا۔ ۔القومَ: قوم کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جانا۔ اِخْتَلَفَہٗ: کو اپنے پیچھے کرنا، کو پیچھے سے پکڑنا۔ ۔اِلی المکان: کسی جگہ بار بار جانا۔ الخَلْف (مص): پیچھے۔ پچھلی طرف کا ظرف و اسم۔ ۔جمع خُلُوف: ایک گروہ کے بعد ایک گروہ اسی سے ہے: ھولاء خلفُ سوءٍ: یہ لوگ اپنے سے زیادہ لوگوں سے آملے ہیں۔ الخُلْفَۃ: کھانے کا آخری مزہ۔ الخُلْفَۃ: سوار کے پیچھے لٹکائی جانے والی چیز، آمد و رفت، باقی ماندہ جو بعد میں یا پیچھے آئے۔ کہا جاتا ہے: فی البئر خِلْفَۃٌ من الماء: کنویں میں باقی ماندہ پانی ہے۔ الخَلِیف جمع خُلُف و خُلُف و خُلَف: میعاد سے پیچھے رہنے والا، وہ عورت جو اپنے بالوں کو پیچھے لٹکائے۔ الخَالِفَۃ: گھر کے پچھلے حصہ میں لگا ہوا ستون۔ الخَوالِف: دیر سے سبزہ اگانے والی زمینیں عورتیں۔ بعض کے نزدیک گھر میں پیچھے رہنے والی عورتیں۔

۳۔ خَلُفَ ـُ خَلافَۃً و خُلُوفاً الغلامُ: لڑکے کا بے وقوف ہونا صفت: خَالِف و خَالِفَۃ۔ خَلِفَ ـَ خَلَفاً: کم عقل ہونا، احمق ہونا۔ الخَالِف: احمق۔ رجلٌ خَالِفَۃٌ: احمق آدمی۔ الاَخْلَف: کم عقل، احمق۔ الخُلْفَۃ: حماقت، بے وقوفی۔

۴۔ خَلَفَ ـُ خَلافَۃً و خُلُوفاً عن خُلُق ابیہ: اپنے باپ کی عادت و خصلت سے بدلا ہوا ہونا۔ ۔خُلُوفاً و خُلُوفَۃً فَمُ الصائم: روزہ دار کے منہ کی بو کا متغیر ہونا، بدبودار ہونا۔ ۔الطعامُ: کھانے کے مزے یا بو کا متغیر ہونا۔ اَخْلَفَ: کی بو کا متغیر ہونا، خراب ہونا۔ اسی سے ضرب المثل ہے: نومۃُ الضحی مُخْلِفَۃٌ للفم: دوپہر سے قبل سونے سے منہ کی بو متغیر ہو جاتی اور بگڑ جاتی ہے۔ نبیذٌ خَالِفٌ: خراب شدہ انگور کا رس۔

۵۔ خَلَفَ ـِ خَلْفاً الرجلُ: پانی طلب کرنا۔ اَخْلَفَ لاھلہ: اپنے اہل کے لئے پانی طلب کرنا۔

۶۔ خَلَفَ ـِ خَلْفاً الثوبَ: کپڑے کی درستی کرنا، کپڑا ٹھیک ٹھاک کرنا۔ ۔اَخْلَفَ الثوبَ: کپڑے کی درستی کرنا۔

۷۔ خَلِفَ ـَ خَلَفاً: بائیں ہتھا ہونا، کھبچو ہونا، بھینگا ہونا۔ الاَخْلَف: کھبچو، بھینگا۔

۸۔ خَالَفَ خِلافاً و مُخَالَفَۃً ہٗ: کی مخالفت کرنا۔ تَخَالَفوا و اِخْتَلَفوا: آپس میں اختلاف کرنا، ناموافق ہونا۔ الخُلْف: خلاف مفروض، نمایاں فرق۔ قیاسُ الخُلْفِ فی المنطق: منطق کی اصلاح میں ایک نقیض کے امتناع سے دوسرے نقیض کے تحقق پر استدلال۔ الخِلْف جمع اَخْلاف و خِلَفَۃ: مختلف۔ الخِلْفان: دو مخالف صفات کی چیزیں، کہا جاتا ہے: لہ ولدان خِلْفان: اس کے دو بیٹے ہیں، ایک عقلمند یا لمبا ہے اور دوسرا جاہل یا ٹھگنا ہے۔ ولدت الناقۃُ خِلْفَین: اونٹنی نے ایک سال نر بچہ جنا اور ایک سال مادہ بچہ۔ الخِلاف: ناموافقت۔ الخُلْفَۃ: مخالفت۔ الخِلْفَۃ: مخالفت، مختلف۔ کہا جاتا ہے: قومٌ خِلْفَۃٌ: اختلاف کرنے والے لوگ۔ الخالِفَۃُ من الرجال: بہت اختلاف کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: ما أدری أی خالِفَۃٍ ھو و ایُّ الخالِف ھو: میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے۔ الاختلاف او اختلاف المنظر لکوکب ك فی مکان ب من الارض: وہ زاویہ جس کا سرک اور قاعدہ زمین کا نصف قطر اور ب ہو۔ یہ اختلاف سب سے بڑا اس وقت ہوتا ہے جب کہ ک افق ب میں ہو۔ اور اختلاف افقی کہلاتا ہے۔ اختلاف الشمس (فک) سورج کے مرکز کا اختلاف، جس کی اوسط قیمت ۸٫۸۰ ث ہوتی ہے۔ الاختلاف او التباعد المرکزی فی القطوع المخروطیۃ (ہ): فوکس سے سیکشن کے نقطہ کے بعد کی لکیر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بعد کی نسبت۔ المسائل الخلافیۃ: اختلافی مسائل۔

۹۔ اَخْلَفَ وعدہ و بوعدہ: وعدہ پورا نہ کرنا ۔ہٗ: کو وعدہ خلاف پانا۔ ۔الغیثُ: بارش کی امید بندھنے کے بعد اس کا نہ برسنا۔ الخُلْف: وعدہ ایفاء نہ کرنا۔ جو مستقبل میں ماضی میں جھوٹ کی طرح ہے۔ الخَلِیف جمع خُلَف و خُلُف: خلاف وعدگی کرنے والا۔ المِخْلاف جمع مَخَالِیف: بڑا وعدہ خلاف آدمی۔

۱۰۔ اَخْلَفَ الغلامُ: لڑکے کا جوانی کے قریب پہنچنا۔

۱۱۔ اَخْلَفَ الدواءُ فلاناً: کو دوا کا کمزور کر دینا۔ الخُلْفَۃ: بیماری کی وجہ سے اشتہاء کا جاتا رہنا۔

۱۲۔ الخَلْف جمع خُلُوف: ردی بات (ضرب المثل ہے: سکت الفاً و نطق خَلْفاً: وہ طویل عرصہ تک ہزاروں باتوں سے خاموش رہا اور جب مہر خاموشی توڑی تو ردی بات منہ سے نکالی۔) کلہاڑی کی دھار، کلہاڑا، بے خبر آدمی، پہلو کی سب سے چھوٹی پسلی۔ الخِلْف جمع اَخلاف و خِلَفَۃ: اونٹنی کے تھن کا سرا۔ ذات الخِلْفَین: کلہاڑی۔ رجلٌ خَالِفَۃٌ:

جھگڑالوآدمی۔الخِلاف (ن) بید کے درخت کی ایک قسم۔قمیض کی آستین۔الـخُـلْـفَة: عیب، نقص۔ الخِلْفَة: کپڑے کا پیوند۔الخَلِیف جمع خُلُف و خُـلُف و خُـلَف: دو پہاڑوں کے درمیان راستہ یا پہاڑی راستہ۔الأخْلَف (ح): نر سانپ، سیلاب۔ الـمِـخْلاف: صوبہ۔ اسی سے ہے: مـخـالیف الیمن: یمن کے صوبے۔الـمَخْلَفَة: وہ جگہ جہاں بید کے درختوں کی کثرت ہو۔راستہ، مرحلہ، منزل۔

خَـلَفَ ـُ خـلافةً ہ: کا جانشین ہونا، کے بعد آنا، کی جگہ پچھ بنا، کے پیچھے آنا، کی جگہ لینا، کا قائم مقام ہونا۔ ہ/ہ: کی جگہ لینا۔ــعـن: سے پیچھے رہ جانا، کے جانے کے بعد پیچھے رہنا، سے رکنا، پرے رہنا، دور رہنا۔خَـلَّفَ ہ: کو جانشین بنانا۔ــہ/ہ: کو پیچھے چھوڑنا، چھوڑنا۔ــ: اولاد والا ہونا۔خـالَفَ ہ: سے متضاد ہونا کے برخلاف ہونا، برعکس ہونا کا مخالف ہونا، الٹ ہونا، ضد ہونا، سے متصادم ہونا، مختلف ہونا، ــہ/ہ: کی تردید کرنا۔ــہ: سے مختلف ہونا، جدا ہونا، سے بے میل یا بے جوڑ ہونا سے غیر آہنگ یا غیر مطابق ہونا۔ (حکم، قاعدہ کی) خلاف ورزی کرنا نافرمانی کرنا، کی حکم عدولی کرنا، کو توڑنا۔اَخْـلَفَ ہ: اولاد، بچے چھوڑنا۔ــعلی: اللہ تعالیٰ کا کسی کے نقصان کی تلافی کرنا، کو بدلہ دینا۔ــوعـدہ: وعدہ توڑنا، پورا نہ کرنا۔ــ: اپنے قول سے پھر جانا۔ــالـرجـاءَ: امیدیں توڑنا توقعات باطل کرنا۔تَـخَـلَّفَ: پیچھے رہنا۔ــعـن: سے پیچھے رہنا۔ــ: رہنا، حاضر نہ ہونا، سکول وغیرہ سے بھاگ جانا بلا اجازت غیر حاضر رہنا، گریز پائی کرنا، غیر حاضر ہونا۔عن: سے پرے رہنا، کے پاس نہ جانا، پر توجہ نہ کرنا۔تَـخَـلَّف عـن الـمـجیء: آنے یا پہنچنے میں ناکام رہنا۔تـخلف عن العودة: واپس نہ آنا۔تَـخَالَفَ: مختلف ہونا، ناموافق ہونا، اختلاف رائے کرنا، مختلف الذہن ہونا۔ اِخْتَـلَفَ عن: سے مختلف ہونا۔ــ: متلون ہونا، تغیر پذیر ہونا، مختلف ہونا، متعدد ہونا غیر مشابہ ہونا۔ــبین: کے درمیان مختلف حجم، قیمت وغیرہ کا ہونا۔ــفی: کے بارے میں متفق نہ ہونا، اختلاف رائے رکھنا، بحث کرنا لڑنا، جھگڑنا۔ــالـی: کسی کے پاس اکثر آتے جاتے رہنا، کی جگہ اکثر جانا، جایا کرنا، کسی شخص سے اکثر ملاقات کرنا، کسی جگہ اکثر جانا۔ کسی جگہ آنا جانا۔ عـلـی: مصیبت وغیرہ کا کسی پر پڑنا، نازل ہونا، کو اچانک آلینا۔اِسْتَخْلَفَ ہ: کو جانشین یا حلقے کا مددگار پادری مقرر کرنا۔خَـلْـف: پیچھے، پچھلا حصہ جانشین (جمع) خَـلْفُ و من خَلْفُ: پیچھے۔خَلْفَ: کے پیچھے، کے بعد، کی پشت پر جَـرَی خـلـفـهـا: وہ اس (عورت) کے پیچھے دوڑا۔مـن خَلْفِ: کے پیچھے۔ مـن الـخَلْف: پیچھے سے الی الخلاف: پیچھے کو، پیچھے کی طرف، پیچھے الی خلف الشیء: کے بعد، کے نقش قدم پر۔فی الخلف: پیچھے، پس منظر میں۔ خـلـفـی: عقبی۔خِلْف جمع اَخْلاف: تھنی، چوچی، (جانوروں کا) تھن (عورتوں کا) سر پستان، نپل۔ خُـلْـف: عدم مشابہت، فرق، تفاوت، نمایاں فرق اختلاف، تناقض، اختلاف۔خَـلَـف جـمـع اَخْـلاف: بدل، قائم مقام، جانشین، اولاد، خلف، نسل، چشم و چراغ۔خِـلْـفَة: عدم مشابہت، فرق، تفاوت، اختلاف، (پودوں کی نموتالی، دن اور رات وغیرہ کا) ایک دوسرے کے پیچھے آنا اور اس کی جگہ لینا۔خَلِیفة جمع خُلَفاء و خلائف: حلقے کا مدد گار پادری، قائم مقام، نمائندہ، وکیل، جانشین، خلیفہ۔ (زمانہ گزشتہ میں تیونس کی ملکی انتظامیہ کا ایک بڑا اہلکار جس کا سربراہ قائد کہلاتا تھا، (پچھلے زمانہ میں) ہسپانوی مراکش کے حاکم کا لقب۔المنطقة الخليفية: خلافتی علاقہ۔خِـلافَة: مددگار پادری کا عہدہ، قائم مقام، نمائندہ، وکیل کا عہدہ، جانشینی، خلیفہ کا عہدہ یا حکومت، خلافت، زمانہ سابقہ میں خلیفہ کا انتظامی محکمہ۔ مِخْلاف جمع مَخَالِیف: صوبہ (یمن میں)۔خِلاف جـمـع خـلافـات: اختلاف، فرق، تفاوت، عدم مشابہت، تجاوز، انحراف، کج روی، نمایاں فرق، تخالف، تباین، تضاد، بے محل ہونا، تردید، مخالفت، اختلاف رائے آویزش، لڑائی جھگڑا، ناموافقت، مباحثہ، مناقشہ۔خِـلافَ: سے قطع نظر، کے مقابلہ میں۔خِـلافُـهُ بـمـعنی غیرہ: دوسرا، دیگر، جیسا، خلافُهم: مذکورین کے علاوہ دوسرے لوگ و خلافه: اور اس جیسا۔بِخلافِ: سے قطع نظر، کے مقابلہ میں، کے برخلاف، کے برعکس، کے علی الرغم، کے الٹ، کی ضد، سے مختلف۔خِـلافـاً لِ: کے برخلاف، کے برعکس، کے علی الرغم، کے خلاف۔علی خـلافِ ذلك: کے برخلاف کے برعکس، کے علی الرغم، سے مختلف، نہیں بلکہ، (ایک طرف تو یہ) دوسری طرف (یہ)۔خِلافِی: اختلافی، نزاعی، تکراری۔مخالفة جمع مخالفات: نمایاں فرق، تخالف، تباین، تضاد، تردید، خلاف ورزی، چھوٹا جرم، چھوٹے جرم پر جرمانہ۔تَـخَـلُّف: دور رہنا، سامنے نہ آنا، غیر حاضری، غیر موجودگی، کام سے بھاگنا، بلا اجازت غیر حاضر رہنا۔(تـخلف عن الحضور بھی کام سے بھاگنے یا بلا اجازت غیر حاضر رہنے کے معنی میں ہے)۔ پیچھے رہ جانا۔ سفر کے دوران کسی جگہ تھوڑا سا رکنا (جیسے ریلوے کی گاڑیوں کا)، پسماندگی۔اِخْتِـلاف جـمـع اِخْتِـلافـات: اختلاف، عدم مشابہت، تفاوت، فرق، اختلاف، رنگا رنگی، تبدیلی، تغیر مختلف، اختلاف رائے، ناموافقت، مباحثہ مناقشہ۔الرعية علی اختلاف المذاهب الدينية: بلا لحاظ مذہبی فرقوں کے ملک کی رعایا۔علی اختـلافِ احزابهـم: خواہ وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔الفواكه علی اختلافها: تمام مختلف پھل، ہر قسم کے پھل۔مَـخْـلُوفَةَ جـمـع مَخْلُوفات: اونٹ کی کاٹھی، گدی، یا زین۔مُخَلَّف: چھوڑا ہوا، پیچھے چھوڑا ہوا، بچا کھچا پس خوردہ۔ مُـخَـلَّفَات: ورثہ، ترکہ، میراث، جائیداد، ریزے، پس خورد اشیاء۔ بچی کھچی چیزیں۔مـخـالِف: مختلف، بے میل، بے جوڑ، متضاد، عکس، الٹ، تردیدی، نمایاں، مخالف، متصادم، باہم دگر آویزاں خلاف ورزی کرنے والا۔مُتَـخَـلِّف: بقیہ، پس ماندہ پس خوردہ، بچا کھچا، روکا ہوا، ترقی پذیر، جمع مُتَخَلِّفُون: جو پیچھے رہ گیا ہو، پیچھے رہ جانے والا۔المتـخـلـفـات: ورثہ، ترکہ، میراث، جائیداد، پس خوردے ردی ٹکڑے، پرزے، فضلہ، آخور، بیکار گوشت (چھیچھڑے اوجھڑی وغیرہ)۔تُـربَةٌ مُتَـخَـلِّفَة: ردی سامان۔ الـمِيَاهُ الـمُتَخَلِّفة: گندا پانی، گندے نالے کا پانی، بدرو کا پانی۔مُخْتَلِف فی (علیه): اختلافی، نزاعی۔ مُخْتَلِفٌ من: سے مختلف، مختلف فی/علی: کے بارے میں مختلف الرائے، اتفاق نہ کرنے والا، غیر متفق۔

خلق: خَلَقَ ـُ خَلْقاً و خِلْقَةً ہ: کو پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا۔الـكـذبَ: جھوٹ گھڑنا۔خَـلُـقَ الـغـلام: لڑکے کا اچھے اخلاق والا ہونا۔تَخَـلَّقَ و اِخْتَـلَقَ الكذبَ: جھوٹ گھڑنا، افتراء کرنا۔الخَلْق (مص): لوگ، فطرت۔الخِلْقَة جمع خِلَق: فطرت، ہیئت۔الـخَلِیق جمع خُـلُق و خُلَقاء: کامل اور معتدل ساخت والا۔الـخَلِیْقَة جـمـع خَلائِق: اللہ تعالیٰ کی مخلوق طبیعت۔المُختَلق: کامل اور معتدل ساخت والا۔

۲۔خَـلَقَ ـُ خَـلْـقاً و خَلْقَةً الادیمَ: چمڑے کا اسے کاٹنے سے پہلا اندازہ کرنا۔

۳۔خَـلَقَ ـُ خَـلْقاً و خَلْقَةً الشَیءَ: کو ہموار کرنا، چکنا کرنا، نرم کرنا۔خَلِقَ ـَ خَلَقاً و خَلُقَ ـُ خُلُوقاً و خُلُوقَةً و خَلاقَةً: چکنا ہونا، نرم ہونا۔خَلُقَ العودَ:

• لکڑی کو ہموار و برابر کرنا۔ —القدحَ: تیر کو نرم کرنا۔ اِخلَولَقَ متنُ الفرس: گھوڑے کی پیٹھ کا چکنی ہونا۔ —الرسمُ: کھنڈر کا زمین کے برابر ہوجانا۔ الخلَق: ہر چکنی چیز۔ الخلاق: چکنا۔ الأخلَق مونث خلقاء: چکنا۔

۴۔ خَلَقَ ـُ وخَلِقَ ـَ و خَلُقَ ـُ خُلُوقَةً و خَلَقًا الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ اَخلَقَ الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ —الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ —الشبابُ: جوانی کا ختم ہونا۔ —هُ الثوبَ: کو بوسیدہ کپڑا پہنانا۔ کہا جاتا ہے: اَخلَقتُ له دیباجتی: میں نے اسے اپنے ایسے بھید سے مطلع کیا جس کے ظاہر ہونے سے مجھے عار ہے۔ اِخلَولَقَ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ —ت الدارُ: گھر کا ویران و اجاڑ ہونا۔ الخلَق جمع اخلاق و خُلقان: بوسیدہ (مذکر و مونث دونوں کے لئے)۔ کہا جاتا ہے۔ ثوبٌ خلَقٌ و جُبَّةٌ خلَقٌ: بوسیدہ کپڑہ، بوسیدہ جبہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ثوبٌ اخلاقٌ و ثیابٌ اخلاقٌ: بوسیدہ کپڑا، بوسیدہ کپڑے۔

۵۔ خَلُقَ الشيءُ له: چیز کا کسی کے لئے لائق و سزاوار ہونا۔ الأخلَق مونث خلقاء: زیادہ لائق، زیادہ مناسب۔ الخَلِیق جمع خُلُق و خُلَقاء: لائق، مناسب۔ کہا جاتا ہے: ھو خلیقٌ به: وہ اس کے لائق ہے، وہ اس کا اہل ہے۔ المَخلَقَة: لائق۔ کہا جاتا ہے: ھو مَخلَقَةٌ بِذٰلِكَ و لِذٰلِكَ: وہ اس کے لائق ہے۔

۶۔ خَالَقَ مُخَالَقَةً القومَ: لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ رہنا۔ تَخَلَّقَ باَخلاقه: کے اخلاق میں ڈھلنا۔ —بغیر خُلُقِه: بناوٹی خلیق بننا۔ اسی سے ہے: لیس التخلُّقُ بالا خلاق کالخُلق: بناوٹی اخلاق طبعی عادات کے مثل نہیں۔ الخُلُق و الخُلق جمع اَخلاق: مروت، عادت، طبعی خصلت طبیعت۔ عِلمُ الاخلاق: حکمت عملیہ کی ایک قسم جسے حکمت خُلُقِیَّة بھی کہا جاتا ہے۔ المُختلَق: کریم الاخلاق۔

۷۔ خَلَّقَ هُ: کو "خَلُوق" خوشبو لگانا۔ تخَلَّقَ: "خلوق" خوشبو لگانا۔ الخِلاق و الخَلُوق: ایک قسم کی خوشبو جس کا جزو اعظم زعفران ہوتا ہے۔

۸۔ اِخلَولَقَ: عسی کی طرح کبھی امید کے معنی بھی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے: اِخلولقتِ السماءُ أن تمطر: یعنی امید ہے کہ بارش ہو۔ خِلولَق اوشک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس صورت میں معنی ہوں گے "بارش برسنے کو ہے"۔ دوسرے لفظوں میں معنی ہے: قریب ہے کہ بارش برسنے لگے۔

۹۔ الخَلِق: بارش کے آثار والا بادل۔ الخَلاق: بھلائی کا بڑا حصہ۔ الخلیقة جمع خلائق: وہ کنواں جو کھودا جا رہا ہو۔ الأخلَق مؤنث خلقاء: فقیر۔

۱۰۔ الخِلقین جمع خلاقین: بڑی کڑھائی یا دیگ۔

○ خَلَقَ ـُ خَلقًا ہ: کی تخلیق کرنا، کو بنانا، وجود میں لانا، صورت دینا، تشکیل کرنا، ڈھالنا۔ خَلِقَ ـَ و خَلُقَ ـُ (لباس کا) پرانا ہونا۔ بوسیدہ ہونا۔ خَلُقَ ـُ خَلاقَةً: موزوں ہونا، راس آنا، پھبنا، سجنا، اچھا لگنا، شایاں ہونا، مناسب ہونا، خَلَّقَ ہ: کو خوشبو لگانا، میں خوشبو ڈالنا۔ اَخلَقَ ہ: کو کثرت استعمال سے پتلا، کمزور، بے کار کر دینا۔ کو پرانا یا پھٹا پرانا کر دینا۔ تخلَّقَ: خود کو خوشبو لگانا۔ —ب: (نمونہ، مثال) میں ڈھلنا، (نمونہ) کے ذریعے تبدیل ہونا، —: ناراض ہوجانا۔ اِختَلَقَ ہ: کو ایجاد کرنا، اختراع کرنا، کو گھڑنا، گھڑنا، تراشنا، خیال یا منصوبہ تخلیق کرنا۔ —علی ہ: سے کوئی بات دعوے سے منسوب کرنا۔ خَلق: پیدائش، تخلیق، آفرینش، ایجاد، اختراع، مخلوقات، موجودات، کائنات، بنانا، تخلیق (شدہ چیز)، لوگ، انسان، نوع انسان، طبعی ساخت، بناوٹ خُلق و خُلُق جمع اَخلاق: پیدائشی، خلقی یا جبلی خصوصیت، پیدائشی طبیعت، مزاج یا افتاد طبع، فطرت، اخلاق، اخلاقی قوت، مزاج، طبیعت، مزاج، خُو۔ جمع اخلاق: (کسی شخص کا) کردار، سیرت، اخلاق، چال چلن، اخلاقیات، اصول اخلاق، حسن عمل، سُوءُ الخُلق: بری طبیعت، سَیِّئُ الخلق: بدطینت، بدمزاج، بدباطن، خبیث فطرت (شخص) سَهلُ الخُلق: بامروت، بااخلاق۔ ضَیِّقُ الخُلق: بے صبر، برداشت نہ کرنے والا تنگ آ جانے والا، علمُ الاخلاق: علم اخلاق، اخلاقیات اخلاقی اصول، سُمُوُّ الأخلاق: کردار کی اعلیٰ ظرفی۔ مَکارِمُ الاخلاق: شریف اخلاق و عادات، بلند اخلاقی معیار۔ شُرطَةُ الاخلاق: اخلاقی مجرموں سے نمٹنے والی پولیس۔ خُلُقِی: اخلاقی۔ جرائم خُلُقیة: عوام کے اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے جرائم خَلَق (مذکر و مؤنث) جمع خُلقان و اخلاق: پھٹا پرانا تار تار، گھسا پٹا، بوسیدہ (کپڑا)۔ خِلقَة جمع خِلَق: پیدائش، آفرینش، پیدائشی کردار کی خصوصیت، طبیعت افتاد طبع، بناوٹ، ساخت، چہرہ مہرہ۔ خِلقَةً: طبیعت کے لحاظ سے۔ خِلقی: قدرتی، طبعی، پیدائشی، فطری، جبلی۔ خِلقی، خَلقَة: کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا، دھجی، چیتھڑا۔ خَلاق: حصہ (مثبت خوبیوں، مذہب کا)۔ لاخلاق له: شرمناک، موجب رسوائی، رسوا کن، فضیحت ناک، فرومایہ، ذلیل، کمینہ، سفلہ، حقارت آمیز، ناکارہ، (شخص)، خَلیق جمع خُلَقاء: ل/ب: کے لئے موزوں، اہل، مناسب۔ — ان: کو کرنے کے لئے موزوں، راغب، مائل، — ب: کے مطابق، کے موافق، مناسب، موزوں کے لئے کافی، کے شایان، کے لائق، کے قابل۔ نحن خلیقون ان: ہمیں چاہئے کہ، یہی اچھا ہے یا ہو گا کہ ہم: ھو خلیق أن: وہ راغب یا مائل ہے کہ: اس کے لئے یہی بالکل قدرتی بات ہے کہ وہ۔ خَلیقٌ بهذا ان یکون مُولِمًا: یہ تکلیف دہ ہو گا، یہ قدرتی بات ہے کہ یہ چیز تکلیف دے۔ نظرة یسیرة خلیقة أن تُقنِعَنا بان: صرف ایک اچٹتی نظر ہی ہمیں قائل کر دے گی کہ ...... خَلُوق: مضبوط کردار کا حامل، ثابت قدم دیانت دار۔ اَخلَق: زیادہ کافی، زیادہ مناسب، زیادہ قدرتی۔ خَلّاق: خالق (باری تعالیٰ)۔ خلیقة: پیدائش، تخلیق، کائنات، قدرت، افتاد طبع، خصوصیت، امتیازی وصف طرہ امتیاز، مخلوقات، جمع خلائق: مخلوقات پیدا کی ہوئی چیزیں۔ اخلاقی: اخلاقی، اخلاقی فلسفی۔ جُرم اخلاقی: عوام کے اصول اخلاق کے منافی جرم۔ الفلسفة الاخلاقیه: علم اخلاق، فلسفہ اخلاق، اخلاقیات۔ اخلاقیة: اخلاقیات، اصول اخلاق، حسن عمل۔ خُلقانی: پرانے کپڑے بیچنے والا۔ خالِق: تخلیقی، خالق، بنانے والا (باری تعالیٰ)۔ مَخلُوق: پیدا شدہ (جمع مخلوقات و مَخالیق): مخلوق، خلق خدا۔ مُختلِق: ایجاد کنندہ، (جھوٹی باتیں) گھڑنے والا۔ مُختلَق: گھڑا ہوا، جھوٹا بنایا ہوا، ایجاد کردہ، تراشا ہوا، بنا لیا ہوا، مشتبہ، غلط، ناقابل قبول جمع مُختلَقات: جھوٹی باتیں، جھوٹ، دروغ، کذب، جعلسازیاں، افسانے۔ خِلقِین جمع خلاقین: دیگ، کڑھائی، کیتلی، بائلر (boiler)

خلن: الخَلَنج (ن) ہیٹر یا ہیژ کی جھاڑیاں۔

○ خُلُنجان: خولنجان، پان کی جڑ۔

خلا: ا۔ خَلا ـُ خُلُوًّا و خَلاءً الاناءُ: برتن کا خالی ہونا۔ —المکانُ: جگہ کے رہنے والوں کا کوچ کر جانا، جگہ کا رہنے والوں سے خالی ہونا۔ —خَلوَةً و خَلوًا و خَلاءً بالهُ: کے دل کا مطمئن ہونا، تسلی حاصل کرنا۔ —الحزنَ: غم سے جدا ہونا صفت خالٍ جمع خُلو۔ کہا جاتا ہے: اِفعَل کذا و خلاك ذَمٌّ: تم

یہ کام کر دو گے کہ تو تم پر مذمت و ملامت نہیں ہو گی۔
خَلّی تَخْلِیَةً مکانَهٗ: مرنا۔ خَلِیَّةً: اپنے لئے شہد کا چھتہ لینا۔ اَخْلَی اِخلاءً المکانَ: جگہ کو خالی کرنا یا خالی پانا۔ ـ المکانُ: جگہ کا خالی ہونا۔ اِسْتَخْلَی المکانُ: جگہ کا خالی ہونا۔ خلا و ماخلا: کلمہ استثناء ہیں اور اِلّا کے معنی میں آتے ہیں اور فعل سمجھے جاتے ہیں لہٰذا مستثنیٰ کو نصب دیتے ہیں جیسے: جاء اتباعُ الامیر خلا و ماخلا زیداً: زید کے سوا حاکم کے سب پیرو کار آئے۔ یہاں زید خلا کا مفعول ہے۔ خلا سے پہلے ما مصدریہ ہو تو خلا کا فعل ہونا مختص ہو گا ورنہ حرف جر ہو گا جیسے خلا زید: زید کے سوا۔ الخِلْو جمع اخلاء: خالی (مذکر و مؤنث کے لئے) بعض کے نزدیک مؤنث کے لئے خِلْوَة آتا ہے۔ الخَلاء (مص) خالی جگہ۔ مکانٌ خَلاءٌ: سونی جگہ، جگہ جس میں کوئی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے: بات فی البلد الخلاء: اس نے سونے شہر میں رات گزاری۔ الخَلِیّ جمع اَخْلِیاء و خَلِیُّون: خالی، بے فکر، بے غم، جس کی بیوی نہ ہو۔ الخَلِیَّة: وہ عورت جس کا نہ خاوند ہو نہ اولاد۔ الخالی جمع اخلاء: کنوارا یا کنواری۔

۲۔ خلا ـُ خُلُوًّا و خَلاءً الرجلُ: کسی جگہ تنہا ہونا۔ ـ خَلْوَةً و خُلُوًّا و خلاءً بہ و معہ و الیہ: کے ساتھ تنہائی میں ملنا، اکٹھا ہونا۔ کہا جاتا ہے: خلا الرجلُ بنفسہ: مرد تنہا ہوا، منفرد ہوا۔ تَخَلّٰی: کسی جگہ (خلوت میں) اکیلا ہونا، تنہا ہونا۔ اَخْلَی اِخلاءً ہٗ وبہ و معہ: سے کسی جگہ (تنہائی میں) ملنا۔ ـ فلاناً معہ: کسی کو اپنے ساتھ تنہائی میں ملنے دینا۔ اِخْتَلٰی: کسی جگہ تنہا ہونا، اکیلا ہونا۔ اِسْتَخْلٰی ہٗ: سے تنہائی میں ملاقات چاہنا۔ ـ بالملک: بادشاہ سے تنہائی میں ملنا۔ الخَلاء: پاخانہ، کہا جاتا ہے۔ خلاؤک اَقْضٰی لحیائک: مکان میں تمہارا تنہا ہونا، تمہاری عیب پوشی کا زیادہ ضامن ہے۔ الخَلْوَة جمع خَلَوات: تنہائی کی جگہ، جائے خلوت۔

۳۔ خَلا ـُ خُلُوًّا و خَلاءً علی فلانٍ: کسی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔

۴۔ خَلا ـُ خُلُوًّا و خَلاءً الشیءُ: گزرنا، کہا جاتا ہے: فعلتُہٗ لِخَمْسٍ خَلَوْنَ مِنَ الشھر: میں نے یہ کام مہینے کی پانچ تاریخ کو کیا۔

۵۔ خلا ـُ خُلُوًّا و خلاءً عن الامر و منہ: کسی امر سے بری ہونا، بیزار ہونا۔ الخَلاء: بری۔ کہا جاتا ہے: انا منہ خلاء: میں اس سے بری ہوں (یہ مفرد، تثنیہ، جمع مذکر، مؤنث سب کے لئے یکساں مستعمل ہے) الخَلِیّ جمع اَخْلِیاء و خَلِیُّون: بری، کہا جاتا ہے۔ انا خَلِیٌّ منہ: میں اس سے بری ہوں۔

۶۔ خلا ـُ خَلْوَةً و خُلُوًّا و خَلاءً بالمکان: کسی جگہ مستقل رہنا۔ ـ لِلامر: کسی کام کے لئے فارغ ہونا، اپنے آپ کو کسی کام میں لگا دینا۔ ـ خُلُوًّا و خَلاءً علی الشیء: پر اقتصار کرنا، بس کرنا۔ ـ بالشیء: کے ساتھ اکیلا ہونا، میں منفرد ہونا۔ تَخَلّٰی لَہٗ: کے لئے فارغ ہونا۔

۷۔ خَلا ـُ خُلُوًّا و خَلاءً بہ: کے ساتھ فریب کرنا۔

۸۔ خَلا ـُ خُلُوًّا و خَلاءً عن الشیء: کو بھیجنا۔ خَلّٰی تَخْلِیَةً الامرَ و عنہ: کو چھوڑ دینا۔ ـ سبیلَہٗ: کسی کو آزاد کرنا، جانے دینا۔ ـ مکانَہٗ: مرنا۔ ـ بینھما: دونوں کو اکٹھا چھوڑنا۔ خالاہٗ مُخالاةً: کو چھوڑ دینا۔ اَخْلٰی اِخلاءً عنہ: کو ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ تَخَلّٰی منہ و عنہ: کو چھوڑ دینا۔

۹۔ خَلّٰی تَخْلِیَةً البائعُ بین المشتری و المبیع: دکاندار کا گاہک کو اس کی خریدی ہوئی چیز سپرد کرنا۔

۱۰۔ الخَلِیَّة: شہد کی مکھی کا چھتہ۔ الخَلِیَّة جمع خَلایا: بڑی کشتی، تمام زندہ چیزوں کا بنیادی مادہ، بسیط کائنات جو ایک خلیہ سے بنی ہوں جیسے جراثیم جہاں تک مرکب اجسام کا تعلق ہے تو جڑے ہوئے خلیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ لکڑی کے چھوٹے خانے جس میں شہد کی مکھیوں کو رکھا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو اس طرح رکھنے اور ان کے بنائے ہوئے شہد سے فائدہ اٹھانے کا یہ طریقہ بہت قدیم ہے۔ شیر کے رہنے کی جگہ۔

خلی: ۱۔ خَلٰی ـِ خَلْیاً النباتَ: گھاس کاٹنا۔ ـ الماشیة: جانوروں کے لئے گھاس کاٹنا۔ ـ الشعیرَ فی المِخْلاة: توبرے میں جو جمع کرنا۔ اَخْلَی المکانُ: جگہ کا زیادہ گھاس والی ہونا۔ ـ الدابّةَ: جانور کو گھاس چرانا۔ اِخْتَلَی العشبَ: گھاس کاٹنا۔ اِنْخَلَی الخَلٰی: گھاس کا کٹنا۔ الخَلٰی واحد خَلاة جمع اَخْلاء: تر گھاس۔ المِخْلٰی: گھاس کاٹنے کا آلہ، درانتی۔ المِخْلاة جمع مَخالٍ: توبرا، گھاس رکھنے کی جگہ۔

۲۔ خَلٰی ـِ خَلْیاً الفرسَ: گھوڑے کے منہ میں لگام لگانا۔ ـ اللجامَ من الفرس: گھوڑے کے منہ سے لگام نکال لینا۔

۳۔ خَلٰی ـِ خَلْیاً القِدْرَ: ہانڈی کے نیچے ایندھن ڈالنا، ہانڈی میں گوشت ڈالنا۔

۴۔ خالٰی مُخالاةً ہٗ: کو پچھاڑنا، کو فریب دینا، دھوکا دینا۔

۵۔ اِخْلَولٰی اِخْلِیلاءً الرجلُ: آدمی کا دودھ پینے میں ہمیشگی اختیار کرنا۔

۶۔ الخَلِیُّوز او السِلُّولُوز (ل): ایک قدرتی مادہ جو لکڑی روئی اور کتان وغیرہ کے ریشے بناتا ہے اور کاغذ، مصنوعی ریشم اور دھماکے سے پھٹنے والے مادوں کے بنانے میں کام آتا ہے۔ (Cellulose)

○ خلو: خَلا ـُ خُلُوًّا و خَلاءً: خالی ہونا۔ ـ خُلُوًّا عن / من: سے آزاد ہونا۔ ـ مِن: سے محروم ہونا، خالی ہونا، کو نہ رکھنا، کا ضرورت مند ہونا، کی ضرورت رکھنا، کی اشد ضرورت ہونا۔ ـ (عہدہ، آسامی) خالی ہونا۔ خَلْوَةً مع الی ب: کے ساتھ تنہا ہونا۔ ـ: الگ تھلگ ہونا، تنہائی میں ہونا۔ ـ لِلْمداوَلَة: غور و خوض، سوچ بچار کے لئے تخلیہ میں جانا (عدالت، جیوری کا) ـ الی: سے راز و نیاز کے لئے تخلیہ اختیار کرنا یا اسے مشورہ وغیرہ کے لئے ملنا۔ ـ ل: کو توجہ دینا، کو پوری توجہ سے کرنا۔ خَلابہ: سے الگ ہو جانا، کو چھوڑ دینا، کا مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑنا، کو مصیبت میں ڈال کر چلے آنا۔ ـ ہ: کے پاس سے گزر جانا۔ ـ: (وقت کا) گزرنا۔ خَلالَہُ الجوُّ: کو تصرف کی آزادی ملنا، کو کھلا موقع ملنا۔ لایَخْلو من جمال: یہ تھوڑے، بہت حسن کے بغیر نہیں) لا یخلو من مبالغة: یہ قدرے مبالغہ آمیز ہے۔ لایخلو من فائدہ: یہ بالکل ناکارہ نہیں۔ خلا الی نفسہ: تن تنہا ہونا، اکیلا ہونا، اپنے آپ سے راز و نیاز میں محو ہونا۔ اپنے آپ سے دل کی بات کہنا، اپنے آپ سے مشورہ کرنا، اپنا دل ٹٹولنا۔ مُنْذُ عشر سنواتٍ خَلَتْ: گزشتہ دس سالوں سے خَلّٰی ہ: کو خالی کرنا، خالی کرآنا، سے نکل آنا۔ ـ ہ: کو چھوڑنا، تنہا چھوڑنا، خالی کرآنا، سے نکل آنا۔ ـ ہ: کو چھوڑنا، تنہا چھوڑنا۔ ـ ہ/ ہ: کو چھوڑنا، جانے دینا۔ ـ عن: سے باز رہنا، پرہیز کرنا، احتراز کرنا، اجتناب کرنا، کو چھوڑنا، ترک کرنا۔ خَلّٰی سبیلَہٗ: کو جانے دینا۔ خَلّٰی بین فلان و بین الشیء: کو میں اختیار دینا، مختار کرنا، کو میں یا کے ساتھ من مانی کرنے دینا، میں کسی سے قطع نظر کر لینا، میں کسی پر اثر انداز نہ ہونا، سے میں نہ ٹکرانا کے لئے کسی کام وغیرہ کا راستہ کھول دینا۔ خَلِّ عنک ھذہ المیول: اس قسم کی خواہشات سے باز رہو۔ اَخْلٰی ہ من: کو سے خالی کرنا، کی مقدار، حجم، قیمت وغیرہ بہت کم کر دینا۔ ـ ہ: (کسی جگہ) کو خالی کرنا، (شہر) کو خالی کر جانا، سے نکل جانا۔ اَخْلٰی سبیلَہٗ: کو جانے دینا، کو رہا کرنا۔ اَخْلٰی السبیلَ لہٗ: کے لئے راستہ کھولنا۔ اَخْلٰی طَرَفَہٗ: کو

برخواست کرنا، سبکدوش کرنا، دور بھیجنا۔ کو بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا۔ اَخْلَی سمعَهُ لِ: کے لئے ہمہ تن گوش ہونا، کو غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ اَخْلَی بینه و بین مایقول: کو جو کچھ وہ کہنا چاہئے کہنے دینا، کو آزادی سے بات کرنے دینا۔ تَخَلّٰی من /عن: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، سے دست کش ہونا سے پیچھے ہٹنا، دور ہونا، عہدہ وغیرہ چھوڑ دینا۔ —عن ل: کو کے سپرد کرنا، حوالے کرنا، کو کے لئے چھوڑنا۔ —عن: (عہدہ) چھوڑ دینا۔ اِخْتَلٰی مع / ب: کے ساتھ تنہا ہونا، پرے ہو جانا، دور ہو جانا، ہٹنا۔ خِلْوٌ من: سے خالی، محروم، کے بغیر۔ خُلُو: خالی ہونا، خلا۔ —من: سے آزادی۔ خلا و ماخلا (منصوب یا مجرور اسم وغیرہ سے پہلے) کے سوا، کے سوائے۔ خَلاء: خالی ہونا، خلا، خالی جگہ، اسامی، کھلا علاقہ۔ (تحتَ الخلاء یافی الخلاء: کھلے آسمان کے نیچے، کھلی ہوا میں، گھر سے باہر، میدان میں) بیت الخلاء: پاخانہ، بیت الخلاء طہارت خانہ، آبدست خانہ۔ خَلْوَة جمع خَلَوات: علیحدگی، خلوت، تنہائی، خلوت گزینی، گوشہ نشینی، الگ تھلگ جگہ، عزلت گزینی، آرام، آرام کرنے کی جگہ، تنہائی کی جگہ، گوشہ، کنج تنہائی، نہاں خانہ، الگ تھلگ کمرہ، کٹیا، جھگی، خانقاہ، دروزیوں کے مذہبی اجتماع کا ہال کمرہ، عارضی دکان۔ عَلَی خَلْوَة: تنہا، آرام گاہ میں گوشہ تنہائی میں۔ خَلْوَةُ الحَمَّام: حمام، غسل گاہ۔ خَلَوِی: اکیلا، یکاو تنہا، گوشہ نشین، الگ تھلگ، گوشہ نشینی یا عزلت گزینی کی، دور افتادہ، کھلے علاقہ میں واقع، دیہی، دیہاتی، دیہاتی، علاقہ، بیتٌ خَلَوِی: حویلی جو کھیتوں، جنگل وغیرہ میں واقع ہو (Country house)۔ خَلِیّ جمع اَخْلِیَا من: سے آزاد، سے خالی، سے محروم، کے بغیر۔ خَلِیُّ البال: ذمہ داریوں اور پریشانیوں کے بغیر، آرام طلب، بے پروا، لاابالی۔ خَلِیَّة جمع خَلایا: چھتہ، مہال، تجلی گاہ، زندہ مادہ کی وحدت۔ الخَلِیَّةُ الحَیَوِیَّةُ الاُوْلٰی: مادہ اولیٰ مادہ حیات (Proto plasm) مِن خَلایا: کے اندر سے، کی وجہ سے۔ مِخْلاۃ: توبرا۔ تخلیة: خالی کرنا۔ انخلاء، خالی کرنا، فضلہ خارج کرنا، نکالنا، نالی بنانا، صاف کرنا، انخلا۔ — اِخْلاء سبیلِه: کی رہائی۔ تَخَلٍّ عن: سے واگزاشت، دست کشی، دست برداری، کو سونپ دینا، حوالے کرنا۔ اِخْتِلاء: خلوت، تخلیہ، علیحدگی، تنہائی، عزلت، اکیلاپن۔ خالٍ: خالی، کھلا، خالی (عہدہ، آسامی) آزاد، بے قابو بے لگام، بے روک ٹوک،

—من: سے آزاد، سے محروم خالٍ من الفائده: بیکار، بے سود۔ خالٍ من السُّکّان: غیر آباد، بے آباد۔ خالی الذہن من: سے آزاد، جو کا پابند نہ ہو۔ خالی البال: لاابالی، بے پروا، آرام طلب ذمہ داریوں اور پریشانیوں کے بغیر۔ (جمع خَوالٍ): گزرا ہوا (وقت) القرونُ الخالیة: گزشتہ صدیاں۔ فی الایام الخَوالی: پچھلے دنوں میں، گزشتہ دنوں میں۔

خم: ۱۔ خَمَّ ـُ خَمًّا البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا۔ —البئرَ: کنویں کو صاف کرنا۔ تَخَخَّمَ ماعلی الخِوان: دسترخوان کا بقیہ کھانا، کھانا۔ اِخْتَمَّ البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا۔ الخُمامَة: کوڑا کرکٹ، خاک چاہ۔ کنوئیں کی مٹی۔ کھانے کے بکھرے ہوئے ریزے۔ المِخَمَّة: جھاڑو۔ قَلْبٌ مَخْمُوم: حسد و کینہ سے پاک دل۔

۲۔ خَمَّ ـِ خَمًّا الناقةَ: اونٹنی کو دودھنا۔ الخَمِیم: تازہ دودھ، تازہ تازہ دوہا ہوا دودھ۔

۳۔ خَمَّ ـُ خَمًّا فلاناً: کی تعریف کرنا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے: هو یَخُمُّ ثیابَ فلان: وہ اس کی تعریف کرتا ہے، مدح سرائی کرتا ہے۔ الخَمِیم: ممدوح، تعریف کیا ہوا۔

۴۔ خَمَّ ـِ خَمًّا و خُمُومًا و أَخَمَّ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا صفت۔ خَمٌّ و خامٌّ و مُخِمٌّ۔ — اللبنُ: دودھ کا بگڑ جانا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لایَخَمُّ: فلاں شخص کی سخاوت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ خُمَّ الدجاجُ: مرغیوں کا دڑبے میں بند کیا جانا۔ الخُمّ جمع خِمَمَة: مرغیوں کا ڈربہ۔ المِخَمَّة: مخرب اخلاق عورت (عام زبان کا لفظ)

۵۔ اِخْتَمَّ الشیءَ: کو کاٹنا۔

۶۔ الخِمّ: خالی باغ۔ عام لوگ کہتے ہیں: فلانٌ خِمُّ او خِمةُ نوم: فلاں شخص بہت سوتا ہے۔ الخُمّان و الخَمّان و الخِمّان: رذیل لوگ، پرانا اردی سامان، ناکارہ درخت۔ الخَمِیم: سست و کاہل شخص۔

۷۔ خَمْخَمَ: ناک میں بولنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: خَمْخَمَ الماءُ وغیرہ: پانی وغیرہ بدبودار ہو گیا، یہ بھی کہتے ہیں: فلانٌ یُخَمْخِمُ: فلاں شخص کھانے میں بہت ہذیان بکتا ہے۔ الخُمْخُم (ح): ایک سمندری جانور الخِمْخِم (ن): ایک خاردار پودہ۔

○ خَمَّ ـُ خَمًّا ه: (کمرہ) میں جھاڑو دینا۔ ـِ خَمًّا و خُمُومًا: بدبو دینا، سڑنا، گلنا، بگڑنا، خراب ہونا۔ خُمّ جمع اَخْمام: مرغیوں کا ٹوکرا، ٹاپا، ڈربہ، مرغی خانہ۔ خَمَّة: بدبو، سڑاند، عفونت۔ خامّ: بدبودار متعفن، گلا سڑا، خراب، گندا۔ مُخِمّ: بدبودار، گلا سڑا، متعفن، خراب، گندا۔

خمج: خَمِجَ ـَ خَمَجًا: بیماری یا تکان کی وجہ سے سست ہونا۔ —اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ —دینُهُ او خُلُقُهُ: کے دین یا اخلاق کا خراب ہونا۔ — فلاناً: کو برائی سے یاد کرنا۔

○ خَمِجَ ـَ خَمَجًا: خراب ہونا، سڑنا، گلنا سڑنا، بگڑنا۔

خمد: ۱۔ خَمَدَ ـُ و خَمِدَ ـَ خَمْدًا و خُمُودًا و خُمُودات النارُ: آگ کی بھڑک کا ختم ہونا اور چنگاریوں کا نہ بجھنا۔ —الحُمّٰی: بخار کے جوش کا ختم ہونا۔ اَخْمَدَ النارَ: آگ کی لپٹ کو بجھانا۔ الخُمود: بجھانے کے لئے آگ کو دبانے کی جگہ۔

۲۔ خَمَدَ ـُ و خَمِدَ ـَ خَمْدًا و خُمُودًا المریضُ: بیمار کا بیہوش ہونا، مرنا۔ اَخْمَدَ الرجلُ: آدمی کا بے حرکت ہونا، خاموش ہونا۔ —انفاسَهُ: کو مار ڈالنا، ذلیل کرنا۔

○ خَمَدَ ـُ خُمُودًا: (آگ کا) بجھ جانا۔ —: ختم ہو جانا، مر جانا، فنا ہونا، گھٹنا، کم ہونا، کم ہو جانا، فرو ہو جانا، خاموش ہونا۔ اَخْمَدَ ه: (آگ) بجھانا۔ — ه: کو بے حرکت کرنا، (جوش) فرو کرنا، ٹھنڈا کرنا، دھیما کرنا، (غصہ) کم کرنا، نرم کرنا کو فرو کرنا، دبا دینا، بجھا دینا، زائل کرنا، کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، قابو میں کرنا، دبانا، ہلکا کرنا، نرم کرنا، بے حس کرنا، کند کرنا، کا گلا گھونٹنا، کو مار ڈالنا (مجازاً) خُمود: نیستی، فنا، باقی نہ رہنا، مٹنا، زوال منزل، اختتام، خواری، ذلت، پستی، بگاڑ، ابتری، انحطاط، نقص، خرابی، سکوت، خاموشی، آہستگی، سناٹا، گہری خاموشی، سکون، طمانیت، قرار، ناقابل حرکت ہونا، بے حس و حرکت ہونا۔ اِخْماد: بجھانا، ٹھنڈا کرنا، ساکن کرنا، بند کرنا، روکنا دھیما کرنا، تشفی، تسکین، رفع کرنا، دور کرنا، ختم کرنا چپ کرانا، تسکین دینا، نرم کرنا، زیر کرنا، مغلوب کرنا قابو میں کرنا، دباؤ، ہلکا کرنا، کند کرنا (بغاوت) فرو کرنا، دبا دینا۔ خامِد: بجھنے والا، گھٹنے والا، کم ہونے والا، فرو ہونے والا بیٹھ جانے والا، پرسکون، پرسکوت، ساکن، مطمئن، بے حس و حرکت خاموش، ساکت۔

خمر: ۱۔ خَمَرَ ـُ خَمْرًا ه: کو چھپانا۔ —الشهادةَ: شہادت (گواہی) چھپانا۔ —فلاناً: سے شرمانا۔ خَمِرَ ـَ خَمَرًا عنه: سے چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ —عنه الخبرُ: سے خبر کا پوشیدہ رہنا۔ خَمَّرَ وجهَهُ: چہرہ ڈھانپ لینا۔ —بیتَهُ: گھر میں جما رہنا۔ خامَرَ مُخامَرَةً به: کے ذریعے چھپنا۔ —بیتَهُ: گھر میں جما

رہنا: اَخْمَرَ: چھپنا۔ ۔الشیءَ: کو چھپانا ۔الأمرَ: کسی امر کو پوشیدہ، رکھنا، چھپائے رکھنا۔ ت الارضُ: زمین میں گھنی جھاڑیوں کا بہت ہونا۔ ۔لہ: سے کینہ رکھنا۔ تَخَمَّرَ و اِخْتَمَرَت المراۃُ: عورت کا دوپٹہ اوڑھنا۔ الخَمَرُ: گھنی جھاڑی یا درخت (آپ کہتے ہیں: تَوَارَی الصید عنی فی خَمَرِ الوادی: شکار وادی کی گھنی جھاڑی میں مجھ سے چھپ گیا) لوگوں کی جماعت اور بھیڑ۔ الخَمِر: زیادہ گھنی جھاڑیوں والی جگہ۔ الخِمْرُ: کینہ، دشمنی۔ الخُمار والخَمَار والخَمُرَۃ: لوگوں کی کثرت اور ان کی بھیڑ۔ الخِمار جمع اَخْمِرَۃ و خُمُر و خُمْر: دوپٹہ، اوڑھنی، پردہ۔ الخُمْرَۃ جمع خُمَر: چھوٹی چٹائی۔

۲۔ خَمِرَ َ خَمَراً الشیءُ: چیز کا بدل جانا۔ خَامَرَ: بیچ میں دھوکا دینا۔ ۔الشیءُ الآخرَ: ایک چیز کا دوسری چیز میں مل جانا۔ ۔القلبَ: دل میں سرایت کرنا، رچ بس جانا۔ ۔ہ الداءُ: بیماری کا کسی کے اندر تک اتر جانا۔ الخَمَرَۃ: مست کرنے والی خوشبو۔ الخَمْرَۃ و الخِمُرَۃ: مست کرنے والی خوشبو۔ الخِمار: کہا جاتا ہے: ماشَمَّ خِمارَکَ؟ تجھ کو ایسی کیا چیز پیش آئی جس نے تیری حالت بدل ڈالی؟

۳۔ خَمَرَ ُ خَمْرًا الرجلَ: کو شراب پلانا۔ اِخْتَمَرا لعصیرُ: رس کا شراب بن جانا۔ الخَمْرُ: انگور کی شراب، ہر نشہ آور چیز۔ الخَمْرَۃ: انگور کی شراب۔ رجلٌ خَمِرٌ: مست و مدہوش آدمی۔ الخُمار: شراب کی وجہ سے ہونے والا دردسر۔ الخُمْرَۃ جمع خُمَر: شراب کی وجہ سے ہونے والی تکلیف اور دردسر۔ شراب کی تلچھٹ۔ الخُمرِیّ من الالوان: سرخی مائل سیاہ رنگ۔ الخَمَّار: شراب فروش۔ الخِمِّیر و المُستَخْمِر: بہت شراب پینے والا۔ المَخْمُور: شراب سے مست و مدہوش۔ الخَمَّارَۃ: شراب بیچنے کی جگہ۔

۴۔ خَمَرَ ُ خَمْراً العجینَ: آٹے میں خمیر دینا۔ خَمَّرَ العجینَ: آٹے میں خمیر دینا۔ اَخْمَرَ العجینَ: آٹے میں خمیر دینا۔ اِخْتَمَرَ العجینُ: آٹے کا خمیر ہو جانا۔ الخَمِیر: خمیری روٹی، خمیرا آٹا۔ الخَمِیرَۃ جمع خَمَائِر: خمیر، کیمیاوی تبدیلیاں لانے والا ایک قدرتی مادہ۔ الخُمْرَۃ جمع خُمَر: خمیر کرنے کا برتن۔ خُمْرَۃُ اللبن: دودھ کو جلد جمانے والی چیز۔ الاختِمار (ل): خمیر اٹھانے کا عمل۔

۵۔ اَخْمَرَ الشیءَ: کو غافل کرنا۔

۶۔ اَخْمَرَہُ الشیءَ: کو کوئی چیز تحفہ کے طور پر دینا۔

○ خَمَرَ ُ خَمْرًا و خَمَّرَ ہ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا، ڈھانپنا، ڈھانکنا۔ ۔ہ: میں خمیر ڈالنا، کو خمیر کرنا، میں خمیر اٹھانا۔ خَامَرَ ہ: میں سرایت کرنا، میں رچ بس جانا سے خلط ملط ہو جانا، مل جانا۔ ۔ہ: (خیال، احساس وغیرہ کا) کسی پر قابو پانا، قابض ہونا، اثر ڈالنا۔ اَخْمَرَ ہ: میں خمیر ڈالنا، کو خمیر کرنا، میں خمیر اٹھانا، کو دل میں رکھنا، ذہن میں رکھنا۔ ۔ل: کے خلاف بغض یا کینہ رکھنا آزردگی محسوس کرنا۔ تَخَمَّرَ: خمیر اٹھنا، خمیر اٹھنے کی حالت میں ہونا، خمیر کرنا، (عورت کا) سر اور چہرہ چھپانا، تَخَامَرَ علی: کے خلاف سازش کرنا۔ اِخْتَمَرَ: خمیر اٹھنا، خمیر اٹھنے کی حالت میں ہونا، خمیر کرنا، پکنا، پک جانا (کسی کے ذہن میں کوئی خیال (یہ مجازی استعمال ہے)۔ خَمْر (مذکر و مؤنث) جمع خُمُور: شراب (جمع) الکوحلی مشروبات، شراب۔ خَمْرۃ: شراب۔ خَمْرِی: سنہری سانولا سرخی مائل سانولا، کانسی رنگ کا، (فی الحقیقت شرابی رنگ کا)۔ خَمْرِیۃ جمع خَمْرِیات: بادہ پرست شعر۔ خِمار و اَخْمِرَۃ و خُمُر: دوپٹہ، اوڑھنی۔ خُمَار: خُمار: نشہ اترنے کا اثر۔ خَمِیر: خمیرہ آٹا، خمیری روٹی، پکا، شیریں، رسیلا، خمیر۔ خَمِیرَۃ جمع خَمَائِر: خمیر، کیمیاوی تبدیلیاں لانے والا ایک قدرتی مادہ۔ (مجازا) مرکزی حصہ، مرکزہ، (جوہری) مرکز، بنیاد جس سے کوئی بڑی چیز بڑھتی ہے)۔ خَمَّار: شراب فروش، شراب کی دکان والا۔ خَمَّارَۃ: شراب کی دکان، شراب خانہ۔ خِمِّیر: پکا شرابی، بلا نوش، ہمیشہ بدمست رہنے والا، تَخْمِیر: خمیر ڈالنا، خمیر کرنا، خمیر اٹھانا، خمیر۔ اِخْتِمار: خمیر اٹھانے (کا عمل) مَخْمُور: بدمست شرابی مدہوش، مست، متوالا مخمور۔ مُخْتَمِر: خمیر اٹھانے والا، خمیر اٹھا ہوا، الکوحلی۔

خمس: خَمَسَ ِ خَمْسًا القومَ: قوم کا پانچواں ہونا، قوم کے مال کا پانچواں حصہ لینا۔ ۔المالَ: مال کا پانچواں حصہ لینا۔ ۔الحبلَ: رسی کو پانچ لڑیوں سے بٹنا۔ خَمَّسَ الشیءَ: چیز کو پانچ رکنوں والا بنانا۔ اَخْمَسَ القومُ: پانچ ہونا۔ الخُمْس و الخُمُس جمع اَخْمَاس: پانچواں حصہ۔ کہا جاتا ہے: ضَرَبَ اَخْمَاسًا لاَسْدَاس: اس نے مکر و فریب کی کوشش کی۔ خُمَاسَ و مَخْمَسَ: پانچ پانچ۔ (مذکر و مؤنث کے لئے یکساں مستعمل ہے)۔ الخَمْسَۃ (ع ح): پانچ (مذکر معدود کے لئے) خَمْس: پانچ (مؤنث معدود کے لئے)۔ الخُماسِیّ: پانچ (حرفوں) والا۔ پانچ زاویہ شکل۔ پانچ اضلاعی شکل۔ الخُمَاسِیَّۃ: کہا جاتا ہے: جاریۃ خُماسِیَّۃ: پانچ سالہ لڑکی۔ خَمْسُون: پچاس (مرفوع حالت میں) نصبی اور جری حالت میں خَمْسِین آتا ہے۔ عیدُ الخَمْسِین: طور سینا پر دس احکام کے نزول کی سالگرہ۔ سفید اتوار، ایسٹر کے بعد ساتویں اتوار۔ اسی اتوار کو رسم اصطباغ ادا ہوتی تھی۔ اسے عید العَنْصَرۃ بھی کہا جاتا ہے۔ الخمیس: ہفتے کا پانچواں دن، جمعرات۔ (اع): لشکر جو پانچ حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ حصے۔ المقدمۃ، القلب، المیمنہ، المیسرہ اور الساقۃ ہیں۔ رُمْحٌ خَمِیس و مَخْمُوس: پانچ گز کا نیزہ۔ المُخَمَّس: پانچ ارکان والا، بڑے بڑے بوجھ اٹھانے کا آہنی آلہ جس میں کئی چرخیاں لگی ہوتی ہیں۔ ہ پانچ متساوی الاضلاع شکل۔ التخمیس عند الشعراء: بیت کے دو حصوں میں تین حصوں کا اضافہ۔

○ خَمَّسَ ہ: کو پانچ گنا کرنا۔ پانچ سے ضرب دینا، کو پنج گوشہ، پنج زاویہ یا پنج اضلاعی بنانا، کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنا۔ خُمْس جمع اَخْمَاس: پانچواں حصہ۔ ضَرَبَ اَخْمَاسَہ فی اَسْدَاسِہ و ضَرَبَ اخماساً لاسداسٍ: نکلنے کے راستہ کی تلاش میں اپنے دماغ کو تکلیف دینا، حواس باختہ ہونا، ریشہ دوانی کرنا، سازش کرنا۔ ساز باز کرنا۔ خَمْسَۃ (مؤنث خَمْس) پانچ۔ خَمْسَۃَ عَشَرَ (مؤنث خَمْسَ عَشْرۃ) پندرہ خَمْسُون: پچاس۔ عیدالخمسین: ایسٹر کے بعد کا ساتواں اتوار، سفید اتوار، طور سینا پر دس احکام کے نزول کی سالگرہ (یہودیوں کا تہوار۔ اور الخمسین: سفید اتوار، ایسٹر کے بعد کا ساتواں دن۔ ایام الخماسین: ایسٹر اور سفید اتوار کے درمیان تقریباً پچاس دنوں کا عرصہ۔ خَمْسِیْن و خَمَاسِین: مصر میں چلنے والی گرم جنوبی ہوا۔ عیدٌ خَمْسِینِیّ: پچاسویں سالگرہ خمیسُ الفصح، خمیس الأسرار اور خمیس العہد: ایسٹر سے پہلی جمعرات۔ خَمَّاس جمع خَمَامسۃ: بٹائی پر کاشت کرنے والا کسان جو فصل کا پانچواں حصہ اپنی مزدوری کے طور پر لیتا ہے۔ خَمِیسَۃ: نظر بد سے بچنے کا ہاتھ کی شکل کا ایک زیور جو عورتیں اور بچے پہنتے ہیں۔ الخامس: پانچواں، خُماسی: پانچ گنا، پانچ حصوں والا، پانچ خانوں والا، پانچ رکنی، پانچ گوشی، پانچ اضلاعی، پنج گوشہ شکل، پنج اضلاع اور پنج زاویہ

شکل۔ ایک ہی آواز سے ادا ہونے والے پانچ لفظوں پر مشتمل بیت۔

خمش: خَمَشَ ۔ِ خَمْشاً و خُمُوشاً الوجهَ: چہرے پر خراش لگانا، تھپڑ مارنا۔ خَمَّشَ ہُ: کو زیادہ خراشیں لگانا۔ الخَمْش جمع خُمُوش: خراش۔ الخُماشة جمع خُمَاشات: ہلکا زخم، ایسا زخم جس پر بدلہ مقرر نہ ہو۔ الخَمُوش (ح): مچھر۔

○ خَمَشَ ۔ُ خَمْشاً و خَمَّشَ ہ: (چہرہ، جلد) پر (ناخنوں سے) خراشیں لگانا۔ خَمْش جمع خُمُوش: خراش، خراش کا نشان، نشان، داغ۔ خَمَاشة جمع خُماشات: خراش، نشان، داغ۔

خمص: ۱۔ خَمَصَ ۔ُ خَمْصًا و خُمُوصًا الجرحُ: زخم کا ورم جاتا رہنا۔ ۔ خَمْصًا و خُمُوصًا و مَخْمَصَةً ہُ الجوعُ: کو بھوک کا دبلے پیٹ والا کر دینا۔ وخَمُصَ ۔ُ خَمْصًا و خُمُوصًا و مَخْمَصَةً و خَمِصَ ۔َ خَمِیصاً البطنُ: پیٹ کا خالی ہونا، دبلا ہونا۔ اِنْخَمَصَ الجرحُ: زخم کا ورم جاتا رہنا۔ الخَمْصَة: بھوک۔ خَمِیصٌ و خُمْصَانٌ و خُمْصَانٌ جمع خِماصٌ مؤنث خَمِیصَةٌ و خَمْصَانَةٌ جمع خِماصٌ و خُمْصاناتٌ و خُمْصاناتُ الحشی: دبلے پیٹ والا۔ خالی پیٹ والا۔ اَخْمَصُ جمع اَخامِصُ البدن: جسم کا درمیانی حصہ۔ المَخْمَصَة (مص) پیٹ کا کھانے سے خالی ہونا۔

۲۔ تَخَامَصَ اللیلُ: رات کی تاریکی کا کم ہونا۔

۳۔ تَخَامَصَ عنہ: سے بچنا، ایک طرف ہونا۔ اَخْمَصُ القَدَمِ جمع اَخامِص: تلوے کا وہ حصہ جو زمین سے نہ لگے۔ اس سے پورا قدم بھی مراد لیا جاتا ہے۔

۴۔ الخَمِیصة جمع خمائص: سیاہ رنگ کا چورس کپڑا۔

○ خَمَصَ ۔ُ و خَمِصَ ۔َ خَمْصًا: (پیٹ کا) خالی ہونا، بھوکا ہونا۔ خَمِیصٌ و خَمِیصٌ و خمیص الحشا: بھوکا، خالی پیٹ والا۔ اَخْمَصُ القَدَم جمع اَخامِس: پاؤں کا دھنسا ہوا تلوا۔ من الرأس الی اخمص القَدَم: سر سے پاؤں تک۔

خمط: ۱۔ خَمَطَ ۔ُ خَمْطًا و خُمُوطًا و خَمِطَ ۔َ خَمَطًا اللبنُ او السِّقاءُ: دودھ یا مشک کا خوشبودار ہونا یا کی بو میں تغیر آجانا۔ صفت۔ خَمْط و خَامِط۔ الخَمْط (مص): ہر کھٹی یا کڑوی چیز۔ الخَمْطة و الخَمَطة من اللبن: دودھ کی بو۔

۲۔ خَمَطَ ۔ِ اللبنَ: دودھ کو کسی برتن میں ڈالنا۔

۳۔ خَمَطَ ۔ُ خَمْطًا اللحمَ: گوشت کو بھوننا۔ الخَمّاط: بھوننے والا۔ خَمِیط: بھنا ہوا گوشت۔

۴۔ خَمِطَ ۔َ خَمَطًا الرجلُ: تکبر کرنا۔ تَخَمَّطَ: تکبر کرنا۔

۵۔ خَمِطَ ۔َ خَمَطًا الرجلُ: غضبناک ہونا۔ تَخَمَّطَ: غضبناک ہونا۔ ۔ الفحلُ: اونٹ کا بلبلانا۔ ۔ البحرُ: سمندر کا موجزن ہونا۔

۶۔ الخَمْط: ہر درخت کا تھوڑا پھل، ہر بے کانٹے والا درخت۔

خمع: خَمَعَ ۔َ خَمْعًا و خُمُوعًا و خَمَعانًا الضبعُ: بجو کا لنگڑا کر چلنا۔ الخامِعة جمع خَوامِع (ح): بجو۔ الخُمَاع: لنگڑا پن۔ الخِمْع جمع اَخْماع: بھیڑیا، چور۔ الخَیْمَع و الخَمُوع: بدکار عورت۔

○ خَمَعَ ۔َ خَمْعًا و خُمُوعًا: لنگڑانا، لنگڑا کر چلنا۔

خمل: ۱۔ خَمَلَ ۔ُ خُمُولاً ذکرُہُ او صوتُہُ: کے ذکر یا کی آواز کا پوشیدہ ہونا، کمزور ہونا۔ خَمِلَ: جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ اَخْمَلَہ ہُ: کو گمنام کرنا۔ الخَامِل (فا) جمع خَمَل من الرجال: گمنام آدمی۔ الخُمَال: جوڑوں کی بیماری۔

۲۔ خَمَلَ ۔ُ خَمْلاً البسرَ: کھجوروں کو نرم کرنے کے لئے گھڑے وغیرہ میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے۔ خَمَلَہُ اللّٰهُ: اللہ تعالٰی اس کو ہلاکت میں ڈالے۔ الخَمِیل: نرم غذا۔

۳۔ اَخْمَلَ تِ الارضُ: زمین کا بہت گنجان درختوں والی ہونا۔ اِخْتَمَلَ ت الماشیة: جانور کا اچھی گھاس والی زمین میں چرنا۔ الخَمِیلة جمع خَمَائِل: بہت گنجان اور گھنا درخت۔ بہت درختوں والی زمین۔

۴۔ اَخْمَلَ القطیفةَ: چادر کو روئیں دار بنانا۔ الخَمْل: کپڑے کا رواں۔ ۔ و الخُمالة: شتر مرغ کے پر۔ الخَمْلة: چادر، پشم دار کپڑا۔ المُخْمَل: پشم دار، کپڑا۔ الخَمِیل: روئیں دار کپڑے۔ الخَمِیلة جمع خَمائِل: چادر، شتر مرغ کے پر۔

۵۔ الخَمْلة جمع خَمَلات: راز، پوشیدہ، برائیاں، پوشیدہ عادتیں۔ الخُمال و الخُمالی و الخِمْل و الخُمْل: مخلص دوست۔ الخَمِیل واحد خَمِیلة: گہرا بادل۔ الخَمِیلة جمع خَمائِل: پست و نشیبی زمین۔

○ خَمَلَ ۔ُ خُمُولاً: نامعلوم ہونا، غیر معروف ہونا، گمنام ہونا۔ کمزور ہونا، سست رفتار ہونا۔ خَمِل: سست رفتار، سست، مٹھا، کند ذہن، بے ہمت، بے ذوق۔ خُمُول: گمنامی، کمزوری، سستی، آلکسی، ناتوانی، کاہلی، بے ہمتی، کم ہمتی، آرام طلبی، نکما ہونا، مٹھاپن، بے عملی، بے حسی، کٹھور پن، ذہنی کاہلی، بے رخی، بے اعتنائی، بے پروائی، نیم خوابی، اونگھ۔ خَمِیلة جمع خَمائِل: گھنے درختوں والی جگہ، جھاڑی بن، جھاڑی، جھاڑ جھنکار والا علاقہ۔ خامِل: نامعلوم، گمنام، غیر ممتاز، غیر اہم، چھوٹا، کمزور، سست رفتار، مٹھا، سست، بے ہمت۔ مُخْمَل: مخمل، مخمل جیسا، کپڑا۔ مُخْمَلِيّ: مخملی۔ جلد مُخْمَلِيّ: ہرن کی کھال، میشہ۔

خمن: خَمَنَ ۔ُ خَمْنًا و خَمَّنَ الشیءَ: کا تخمینہ لگانا، کی قیمت لگانا، کا اندازہ کرنا، کے بارے میں قیاس آرائی کرنا۔ الخَمَن: بدبو۔ الخَامِن: گمنام، غیر مشہور۔ الخَمّان: کمزور نیزہ، گھٹیا درجہ کا آدمی۔ کہا جاتا ہے ھم خَمّانُ الناس: وہ کم درجے کے لوگ ہیں۔ الخَمّانة: نیزہ کی کمزور چھڑ۔

○ خَمَّنَ: قیاس کرنا، گمان کرنا، اندازہ کرنا، انکل سے بتانا، قیاس آرائی کرنا۔ ۔ ہ: کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنا۔ ۔ ہ: کا اندازہ لگانا، کی قیمت لگانا، کا تخمینہ لگانا، کو جانچنا، کا اندازہ کرنا۔ تَخْمِین: تخمینہ، اندازہ، تشخیص، جانچ، تعین، رائے۔ تَخْمِینًا اور علی تَخْمِین: تقریباً، اندازاً۔ مُخَمِّن: قیمت تشخیص کرنے والا، تعین کرنے والا، ٹیکس مقرر کرنے والا، تخمینہ لگانے والا، قیمت لگانے والا۔

خنّ: ۱۔ خَنَّ ۔ِ خَنِینًا: ناک میں بولنا، یا رونا یا ہنسنا صفت: اَخَنّ۔ الخُنّة: گنگناہٹ، ناک کی آواز۔ الخُنان و الخِنان: اونٹوں کا زکام، طب: ناک کی بیماری، (طب) پرندوں کے حلقوں میں لگنے والی بیماری۔ المَخَنّة: گنگناہٹ، ناک کی آواز، ناک۔

۲۔ خَنَّ ۔ُ خَنًّا المالَ: مال لینا۔

۳۔ خَنَّ ۔ُ خَنًّا القومَ: قوم کی حریم میں داخل ہونا۔ المَخَنّة: حریم۔

۴۔ اَخَنَّ ہُ: کی عقل کو چھین لینا صفت: مخنون، (قیاس کی رو سے مُخَنّ ہونی چاہئے۔)

۵۔ اِسْتَخَنَّ ت البئرُ: کنویں کا بدبودار ہونا۔

۶۔ الخُنان: آسودگی، زندگی کا آرام۔ المِخَنّ: لمبا آدمی۔ المَخَنّة: گھر کا درمیان، صحن، واضح راستہ، راستہ کا آغاز، شروع وادی کی تنگ جگہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مَخَنّة لفلان: وہ فلاں شخص کے کھانے کی چیز ہے۔

۷۔ خَنْخَنَ خَنْخَنَةً: ناک سے بولنا۔ ۔ فی کلامہ: غیر واضح بات کرنا، خنخنانا۔

○ خَنَّ ۔ خَنِیًا: ناک سے بولنا، ناک سے حرف کی آواز

نکالنا، غنغنی آواز نکالنا۔ خُـنَّـة: ناک کی غن غنی آواز۔ خَـنِین: غن غنی۔ اَخَنّ مونث خَنَّاء: ناک سے بولنے والا۔ خُنّ جمع اَخْنَان: مرغی کا ٹاپا یا کھڈا، ٹوکرا، پنجرہ۔

خنب: ۱۔ خَنِبَ ۔ خَنَبًا: زکام والا ہونا۔ تَخَنَّبَ: تکبر سے ناک چڑھانا۔ الخَنَب (طب): زکام۔ ناک کی بیماری۔ الـخِـنَابَة و الخُنَابَة: تکبر۔ الـخِـنَابَتَان و الخُنَابَتَان: ناک کے دونوں نتھنے۔

۲۔ خَنَبَ ۔ خَنَبًا: لنگڑانا۔

۳۔ خَنِبَ ۔ خَنَبًا: کمزور ہونا۔ اَخْنَبَهُ: کو کمزور کرنا۔ الخِنَاب: بے وقوف۔

۴۔ خَنِبَ ۔ خَنَبًا: ہلاک ہونا۔ اَخْنَبَ: ہلاک ہونا۔ اَخْنَبَ هُ: کو ہلاک کرنا۔ اِخْتَنَبَ: ہلاک ہونا۔ الخَنَابَة: برائی۔

۵۔ الخَنَاب: لمبا۔ الخَنَابَة: بڑا نشان۔

خنث: ۱۔ خَنِثَ ۔ خَنَثًا الرجلُ: زنانہ صفت ہونا، ہیجڑا ہونا، صفت خَنِث۔ خَنَّثَ هُ: کو زنانہ صفت بنانا، ہیجڑا بنانا۔ نرم کرنا۔ اَخْنَثَ: مڑنا، ٹوٹ جانا، دوہرا ہونا، لچکنا۔ تَخَنَّثَ و اِنْخَنَثَ: زنانہ صفت ہونا، ہیجڑا ہونا۔ الخُنْث: اَخْنَثَ کا اسم: لچک، نرمی۔ خَنَاثِ: (کسر پر مبنی) مونث کا وصف ہے اور صرف ندا میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ یا خَنَاثِ: اے لچکنے والی۔ الخُنْثَی جمع خَنَاثَی و خِنَاث: ہیجڑا۔ جو مردوں اور عورتوں کے اعضا اکٹھے رکھتا ہو۔ المُخَنَّث: ڈھیلے لچکدار اعضاء والا۔ المِخْنَاث جمع مَخَانِیث: بہت لچکدار و نرم۔ کہا جاتا ہے: رجل مِخْنَاث و امرأة مِخْنَاث: بہت لچکدار و نرم مرد و عورت۔

۲۔ خَنَثَ ۔ خَنْثًا هُ: کی ہنسی اڑانا، پر ٹھٹھا کرنا۔

۳۔ خَنَثَ ۔ خَنْثًا السقاءَ: مشک کے منہ کو پھاڑ کر باہر کی جانب موڑنا۔ خَنَّثَ هُ: کو موڑنا۔ خِنَاث و اَخْنَاث (واحد خِنْث) الثوبِ: کپڑے کی تہیں۔ کہا جاتا ہے اِطْوِ الثوبَ علی خِنَاثه: کپڑے کو اس کی تہوں پر لپیٹو۔

○ خَنِثَ ۔ خَنَثًا: نرم ہونا، زن صفت ہونا، زنانہ ہونا، نامرد ہونا۔ تَخَنَّثَ: زنانہ اطوار ظاہر کرنا، زن صفت، زنانہ یا نامرد ہونا یا ہو جانا۔ خَنِث: نرم، زن صفت: زنانہ، نامرد۔ خُنْثَی جمع خِنَاث و خَنَاثَی: ہیجڑا، مخنث۔ خُنُوثَة: نامردی، زنانہ پن۔ تَخَنُّث: نامردی، زنانہ پن۔ مُخَنَّث: دو جنسی نر مادہ ملا ہوا۔ نامرد، زن صفت، زنانہ، ناتواں، کمزور۔

خنج: الخَنْجَر و الخِنْجَر جمع خَنَاجِر: خنجر۔

○ خَنْجَر جمع خَنَاجِر: خنجر۔

○ خَنْخَنَ: ناک سے بولنا، تن تن کی آواز نکالنا۔

خند: ۱۔ الخُنْدُب: بد خلق۔

۲۔ الخَنْدَرِیس: پرانی شراب (یونانی لفظ)۔

۳۔ الخُنْدُع: خسیس۔

۴۔ خَنْدَقَ خَنْدَقَةً: خندق کھودنا۔ الـخَنْدَق جمع خَنَادِق: شہر پناہ کے اردگرد کی کھائی۔ خندق۔ (فارسی لفظ)

○ خَنْدَقَ (خَنْدَقًا): خندق کھودنا، مورچے سنبھالنا، لڑائی کے لئے تیار ہونا۔ خَنْدَق جمع خَنَادِق: خندق، کھائی۔

خنذ: ۱۔ تَخَنْذَذَ: دلیر بے شرم ہونا۔ الخِنْذِید جمع خَنَاذِیذ: لمبا، بخت، پہاڑ کی اونچی چوٹی، اچھا شاعر، بہادر، شجاع، سخی، بگول۔

۲۔ الخُنْذُع: خسیس۔

خنز: ۱۔ خَنِزَ ۔ خَنَزًا و خُنُوزًا اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت: خَنِز و خَنَز۔ الخَنْزُوَان (ح): بندر، نر سور۔ الخُنْزُوَان و الخُنْزُوَانَة: تکبر۔

۲۔ الخِنْزِیر جمع خَنَازِیر (ح): سور۔ —البری: جنگلی سور۔ خِنْزِیر البحر (ح): دلفین سے چھوٹی ایک قسم کی مچھلی۔ خِنْزِیرُ الهند: خرگوش سے مشابہ اور اس سے قدرے چھوٹا اغدار جلد کا جانور۔ خِنْزِیرَةُ البئر (می): کنویں سے پانی نکالنے کی چرخی۔ الخَنَازِیر (ع ا): گلے کی گلٹیاں، کنٹھ مالا۔ الخِنْزِرَة: موٹائی، پتھر توڑنے کا ہتھوڑا۔ الـخَنَازِیرِیة (ن): ایک قسم کی ترگھاس جو کرہ ارض کے نصف شمالی حصہ میں عام ہے زمانہ قدیم میں اسے خارش اور دیگری جلدی امراض کے علاج میں استعمال کیا جاتا تھا۔

○ خنزوانیة: بڑا بننے کا خبط، بڑی چیزوں کا خبط۔

○ خُنْزُب: شیطان۔

○ خِنْزِیر جمع خَنَازِیر: سور، خنزیر، خصی سور۔ خِنْزِیر بَرِّیّ: جنگلی سور، بنڈیلا۔ خَنَازِیر: کنٹھ مالا، کھینگا، خنازیر: تپ دق۔ خَنَازِیرِی: خنازیری، تپ دق کا۔

خنس: ۱۔ خَنَسَ ۔ خَنْسًا و خُنُوسًا و خِنَاسًا عنه: سے پیچھے ہٹنا، ایک طرف ہونا، سکڑنا۔ کہتے ہیں: خَنَسَ الطریقُ عَنّا: ہم نے راستہ کو طے کرکے اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ — خَنْسًا هُ: کو پیچھے کرنا۔ —اِبهامَهُ: انگوٹھے کو سمیٹنا۔ کہا جاتا ہے اشار باربع و خَنَسَ اِبهامَهُ: اس نے انگوٹھے کو سمیٹ کر چار انگلیوں سے اشارہ کیا۔ خَنِسَ ۔ خَنَسًا: چپٹی اور سرے سے اٹھی ہوئی ناک والا ہونا صفت: اَخْنَس مونث خَنْسَاء جمع خُنْس: اسم۔ الخَنَس۔ اَخْنَسَ هُ: کو پیچھے کرنا۔ کہا جاتا ہے اَخْنَسْتُ عنه بعض حَقِه: میں نے اس کا کچھ حق روک لیا۔ —اوعار الطریق: کٹھن راستوں کو عبور کر جانا۔ اِنْخَنَسَ عنه: سے پیچھے ہٹنا، سکڑنا، پیچھے رہ جانا۔ الـخُنَّس (ح): ہرنیاں، نیل گائیں۔ الاَخْنَس و الخَنُوس (ح) شیر۔ الـخَنَّاس: شیطان۔ الـخِنِّیس: فریبی، حیلہ باز۔ الخَنْسَاء (ح): نیل گائے۔

۲۔ خَنَسَ ـُ خَنْسًا و خُنُوسًا و خِنَاسًا بین اصحابه: اپنے ساتھیوں کے درمیان چھپنا۔ —خَنْسًا الشیءَ عنه: چیز کو کسی سے چھپانا۔ —فلانًا و به: کو غائب کرنا، چھپانا صفت: خَانِس جمع خُنَّس۔ اَخْنَسَ هُ عنه: کو سے روکنا۔ تَخَنَّسَ به: کو چھپانا، غائب کرنا۔ الخُنَّس: ہرنیوں کے رہنے کی جگہ (ح) ہرنیاں۔ الخُنَّس (فلك): سب ستارے یا سیارے یا بعض سیارے۔ بعض کے نزدیک یہ زُحَل و المُشْتری و المریخ و الزُّهَرَة و عُطارِد ہیں۔ کیونکہ یہ دھوپ میں چھپ جاتے ہیں۔

۳۔ خَنَسَ ـُ خَنْسًا القولَ: بری بات کہنا۔

۴۔ الخَنْسَر و الخَنْسَرِیّ جمع خَنَاسِرَة: نقصان میں پڑنے والا۔ الخِنْسِر: لئیم۔ الـخَنَاسِیر: مصائب۔

○ الخَنَّاس: شیطان کا لقب۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر پیچھے ہٹ جانے والا۔ اَخْنَس مونث خَنْسَاء جمع خُنْس: چپٹی ناک والا۔

خنش: الخِنْشار (ن): ایک پودہ جس کو فنس راج کہتے ہیں۔

خنص: ۱۔ الخِنَّوص مونث خِنَّوصَة جمع خَنَانِیص: (ح): سور کا بچہ۔

۲۔ الخِنْصِر و الخِنْصَر جمع خَنَاصِر: چھنگلیا۔ کہا جاتا ہے۔ هذا امر تُعْقَدُ علیه الخَنَاصِر: یہ قابل اعتبار معاملہ ہے۔

○ عقد الخِنْصَر (الخَنَاصِر) علی: کسی چیز کو تمام دوسری چیزوں پر فوقیت دینا، کسی چیز کو اس کی فضیلت کی بنا پر سب سے زیادہ اہمیت دینا، کو سب پر ترجیح دینا۔

خنط: الخُنْطُل (ح): بلی، مصیبت، قطار، ٹڈی دل۔

خنع: ۱۔ خَنَعَ ۔ خُنُوعًا له و الیه: سے عاجزی و فروتنی

کرنا۔ -الی اللّٰہ: بغیر عمل کے اللہ سے تضرع وزاری کرنا۔ -الی الأمر السّیء: برائی کی طرف مائل ہونا۔ اخنعتهُ الحاجةُ له و الیه: حاجت وضرورت کا کسی کو کسی کے آگے ذلیل و پست کر دینا۔ الخنع: ذلت۔ الخانِع و الخُنُوع جمع خنعَة و خُنُع: بدکار، شک پیدا کرنے والا۔ الخُنعَة: تہمت، عار۔

۲۔ خنَعَ َ خُنُوعًا بفلانٍ: کے ساتھ بیوفائی کرنا۔

۳۔ خنعَهُ: کو کلہاڑی سے کاٹنا۔

○ خَنَعَ َ خُنُوعًا الی /ل: کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک جانا، کے آگے ہتھیار ڈال دینا، کی اطاعت قبول کرنا، کے آگے جھک جانا، کے سامنے عاجزی کرنا، لجاجت کرنا۔ خَنُوع: فرمانبردار، اطاعت شعار، کمینہ، ذلیل، فرومایہ، منکسر المزاج، مسکین، عاجزانہ طبیعت والا۔ عاجز، خاکسار، بیوفا، غدار، دغاباز، دھوکے باز، نمک حرام۔ خُنُوع: فروتنی، عاجزی، انکسار، انکساری، بے زبانی، نرم دلی، غلامی، چاکری، فرمانبرداری۔

خنف: ا۔ خَنَفَ ِ خِنافًا البعیرُ: اونٹ کا دوڑتے ہوئے اپنا سر اپنے سوار کی طرف جھکانا۔ صفت: خَنُوف (مذکر و مؤنث) جمع خُنُف۔ -خُنُوفًا: غضبناک ہونا۔ -الرجل بأنفِهِ: تکبر کرنا صفت: خانِف۔ خَنِفَ َ خَنَفًا صدرُهُ او ظهرُهُ: کے سینہ یا پیٹھ کی ایک طرف کا دوسری جانب سے مخالف ہونا صفت: اَخنَف جمع خُنف۔ الخُنف: نشانات۔

۲۔ خَنفَسَ عن القوم: قوم سے بدول ہونا، قوم سے کنارہ کش رہنا۔ الخُنفُس و الخُنفَس و الخُنفُس و الخُنفَساء و الخُنفَساءة جمع خَنافِس (ح): گبریلا۔ الخُنافِس (ح): شیر خُنفَساء البطاطس (ح): آلوؤں کی نرم زمین کو نقصان پہنچانے والے حشرات الارض۔

○ خَنفَرَ: سون سون کرنا، سُرسُر کرنا، زکام کے باعث ناک میں بولنا، نتھنوں سے آواز نکالنا۔

خنق: ا۔ خَنَقَ ُ خَنقًا و خِنقًا و خَنَّقَ تخنیقًا ہ: کا گلا گھونٹنا۔ کہا جاتا ہے: خنقتهُ العَبرةُ اسے رونے میں پھندا لگ گیا۔ اِنخنَقَ: اپنا گلا گھونٹنا۔ اِختنَقَ: گلا گھٹنا۔ الخَنِق و الخَنیق: گلا گھونٹا ہوا۔ الخانِق (فا): تنگ راستہ۔ الخُناق (طب): ایک بیماری کا نام جس میں سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ الخِناق: رسی وغیرہ جس سے گلا گھونٹا جائے۔ گردن (کہا جاتا ہے: اخذهُ بخناقه: اس نے اس کو گردن سے پکڑ لیا)۔ گلی، کوچہ۔ الخَنّاق: وہ جس کی عادت گلا گھونٹنے کی ہو۔ المُخنَّق (مفع): گلا گھونٹنے میں رسی کی جگہ۔ گردن۔ کہا جاتا ہے: غلامٌ مُخنَّقُ الخصر: پتلی کمر والا لڑکا۔ المِخنقة جمع مَخانِق و مَخانِق: گلا گھونٹنے کی چیز۔ ہار۔ گلوبند۔ المُختنَق: تنگ جگہ، آبنائے، درہ۔ الخُناقِیَّة (طب): پرندوں اور گھوڑوں کے حلق میں پیدا ہونے والی بیماری۔

۲۔ خنَقَ ُ خنقًا العَلَمَ: اظہار غم میں جھنڈے کو سرنگوں کرنا۔

۳۔ خنَّقَ تخنیقًا الاناءَ: برتن بھرنا۔ -السرابُ الجبلَ: سراب کا پہاڑ کو تقریباً ڈھانپ لینا۔ -زیدٌ الأربعین: زید کا چالیس برس کے قریب پہنچنا۔

۴۔ خانِقُ الذئبِ و خانِقُ النمرِ و خانقُ الکلبِ و خانقُ الکِرسنة (ن): مختلف نباتات کے نام۔

○ خَنَقَ ُ خَنقًا ہ: کا گلا دبانا، گلا گھونٹنا، ٹینٹوا دبانا کا گلا گھونٹ کر مار دینا، کا دم روکنا، سانس روکنا، کو پھانسی دینا، -ہ: انجن یا گاڑی کے ایندھن یا طاقت کی آمد کو کنٹرول کرنا کہ اس کی رفتار کم کی جائے۔ کو آہستہ کرنا، کاٹنا، روکنا، دبانا۔ خانَقَ ہ: سے جھگڑنا، لڑنا۔ تَخانَقَ مع: کے ساتھ جھگڑنا، بحث کرنا، لڑنا۔ اِنخنَقَ: کا گلا گھٹنا، کی رفتار کم ہونا، آہستہ ہونا، رکنا۔ اِختنَقَ: گلا گھٹنا، رفتار کم ہونا، دبنا، ختم ہونا رکنا، (گلے کا) داب میں آیا ہوا ہونا، کھچایا سکڑا ہوا ہونا۔ گلا گھٹ کر مرنا۔ خَنق: گلا گھونٹنا، گلا دبانا، حبس یا اختناق، دبانا، امتناع، خاتمہ۔ خَنقُ الانوار: ہلکی روشنی۔ خَنقَةُ الید: کلائی۔ خُناق: گلا گھونٹنا، حبس، دل کی بیماری، ضعف قلب۔ خُناق و خانوق: خناق، (جمع خَوانِق و خَوانیق) خنّاق: گلا دبانے والا، گلا گھونٹنے والا، گلا گھونٹ کر مار ڈالنے والا۔ مَخنَق: گردن، گلا۔ اخذَهُ بمخنقه: کو گلے سے پکڑنا، کو پچھاڑنا، زیر کرنا، پر تسلط کرنا۔ خِناق: گلا گھونٹنے کی ڈوری، گردن، گلا۔ ضَیَّقَ الخِناق علی: کے گلے کے گرد گرفت مضبوط کرنا، کی گردن پر پاؤں رکھنا، کو زیر کرنا، دبانا، کو سختی سے گھیر لینا۔ اخذ بخناقِهِ: کو گلے سے پکڑنا۔ خِناق و خِناقة: جھگڑا، لڑائی، قطار، صف۔ اِختِناق: گلا گھٹنا، سانس کا رکنا، کھچاؤ، انقباض، سکتہ، چکر، غشی۔ خانِق: گلا دبانے والا، گلا گھونٹنے والا، گلا دبا کر مار ڈالنے والا، سانس روکنے والا، زبان بندی کرنے والا، بھاپ نکلنے کی ٹونٹی سے بھاپ کے اخراج کو کم یا زیادہ کرنے والا، بھاپ وغیرہ کم کرنے یا زیادہ کرنے کا والو۔ (جمع خوانق): گلا گھونٹنے کی ڈوری تابکاری تعامل ساز۔ تنگ گھاٹی، گہری گھاٹی، کھڈ، گہری کھڈ۔ غاز خانِق: گلا گھونٹنے والی گیس۔ مَخنُوق: گلا گھونٹا ہوا۔ گلا دبایا ہوا، پھانسی دیا ہوا، دبی ہوئی یا دبی دبی (آواز ہنسی) سکڑا ہوا، منقبض، کھچاؤ میں آیا ہوا، دبا کر خون یا پاخانہ روکا ہوا، مُختنِق ب: سے لباب لب یا کھچا کھچ بھرا ہوا، ہجوم سے رکا ہوا یا بند ہوا ہوا، سے پر ہجوم۔

خنا: ا۔ خنَا ُ خَنوًا و خنِیَ َ خَنًی و اَخنَی علیه فی الکلام: کے ساتھ فحش کلامی سے پیش آنا۔ الخَنَی: بدزبانی، فحش گوئی۔

۲۔ اَخنَی علیه الدهرُ: پر زمانہ کا دراز ہو جانا، کو ہلاک کرنا، پر ظلم کرنا، سے بیوفائی کرنا، کہا جاتا ہے، اَخنَی به: اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ بدعہدی کی۔ خَنَی (واحد خَناة) الدهرِ: زمانہ کے مصائب۔

۳۔ اَخنَی الجرادُ: ٹڈی کا بہت انڈے دینا۔ -المرعی: چراگاہ کا بہت گھاس والی ہونا۔

○ خَنَا ُ و خَنِیَ َ خَنًی: فحش زبان استعمال کرنا، ناشائستہ زبان استعمال کرنا۔ اَخنَی علی (قسمت کا کسی شخص یا چیز کو) سخت دھچکا لگانا، المناک طور پر تکلیف میں ڈالنا، برباد کرنا، تباہ کرنا، کچل ڈالنا، کو مسلسل کمزور تر کرتا جانا۔ خَنًی: فحش زبان، ناشائستہ زبان ناشائستہ یا فحش چیز، رنڈی پن، طوائفیت، حرام کاری، زنا۔

خاب: خابَ ُ خَوبًا: محتاج ہونا، غریب ہونا۔ الخَوبة: بھوک، وہ زمین جس پر چارہ نہ ہو یا جس پر بارش نہ برسی ہو۔

خات: ا۔ خاتَ ُ خَوتًا و خَوتانًا الرجلُ: عمر رسیدہ ہونا۔

۲۔ خاتَ ُ خَوتًا و خَوتانًا الرجلُ: بدعہدی کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔

۳۔ خاتَ ُ خَوتًا و خَوتانًا البازی علی الصید: باز کا شکار پر جھپٹنا۔ -خَوائتُ العُقاب: جھپٹے وقت عقاب کا پروں سے سرسراہٹ کی آواز نکالنا۔ تخوَّتَ الشیءَ: کو اچک لینا۔ حدیثَ القوم: لوگوں کی بات سن کر یاد رکھنا، -الشاةَ: بکری کو دھوکے سے چرا لینا۔ اِنخاتَ البازی علی الصید: باز کا شکار پر جھپٹنا۔ اِختاتَ البازی علی الصید: باز کا شکار پر جھپٹنا۔ — الشیءَ: کو اچک لینا۔ — حدیثَ القوم: لوگوں کی بات سن کر یاد رکھنا۔ — الشاةَ:

بکری کو دھوکے سے چرالینا۔ کہا جاتا ہے: ھم یختاتون اللیلَ: وہ رات کو راہزنی کرتے ہیں الخوّات: بہادر اور دلیر آدمی۔

۴ خاتَ ـُ خوتًا و خوتانًا المالَ: مال کو کم کرنا۔ تخوّتَ و اختاتَ المالَ: مال کو کم کرنا۔

۵ خوِتَ: پاگل ہونا یا ہوجانا (عام زبان میں) الاخوت م خوتاء ج خوت: پاگل۔ اسم خوات: پاگل پن

حوت حوِتَ ـَ خوتًا البطنُ: پیٹ کا ڈھیلا ہونا، کھانے سے بھرا ہوا ہونا صفت: اَخوث مؤنث خوثاء۔

○ خواجة جمع خواجات: جناب، میاں، (مسیحیوں اور مغربی ممالک اور امریکہ کے باشندوں کا لقب، جو عموماً اس شخص کا نام لئے یا نام لئے بغیر استعمال کیا جاتا ہے جسے مخاطب کیا گیا ہو۔ (جیسے ہمارے ہاں میاں صاحب، چودھری صاحب وغیرہ) خوان و خِوان جمع اَخونة و اَخاوین: میز خوانُ الزینة: سنگار میز۔

○ خوجة: استاد، سکول ماسٹر۔

خاخ اخاخ اخاخةَ العشبُ: تازہ گھاس کا کم ہونا، پوشیدہ ہونا الخوخ (واحد خوخة) (ن): شفتالو، آڑو الخوخة: روزن، روشندان، بڑے دروازے کی کھڑکی الخوخاء و الخوخاة و الخوخاءة: احمق، بیوقوف۔

○ خوِخَ: گلنا سڑنا، بگڑنا، خراب ہونا خوخ (اسم جنس واحد خوخة): آڑو، شفتالو، آلو بخارا، کشمش، میوہ خوخة جمع خوخ: سقفی روشندان، کھڑکی جیسا راستہ، بڑے پھاٹک میں لگی ہوئی کھڑکی، چور کھڑکی، پھرکی دروازہ، دو گلیوں کو ملانے والا کوچہ۔

خود: خوّدَ الرجلُ: تیز چلنا ـ من الطعام شیئاً: کچھ کھانا پانا۔ تخوّدَ الغصنُ: شاخ کا جھکنا الخوْد جمع خوْدات و خُود: جوان عورت۔

خوذ: اخاوذَ مخاوذةً الی الشیءِ: کے پاس ایک کے بعد دوسرے کا آنا۔ کہا جاتا ہے خاوذونا الی الماءِ: وہ پانی کی طرف جارہے تھے اور ہم لوٹ رہے تھے۔

۲ خاوذَ عنه: سے کنارہ کش ہونا۔

۳ خاوذتْہُ الحمّی: بخار نے اس کو بے وقت آن لیا۔ ـہُ: کی زیارت کے لئے بار بار آنا تخوّذَ: برابر ملتے رہنا۔ آپ کہتے ہیں تخوّذنا بالزیارة: اس نے ہم سے بار بار ملاقات کی تخاوذَ القومُ: آپس میں عہد و پیمان کرنا خِواذُ الحمّی: بخار کا نامعلوم وقت پر آنا۔

۴ الخوذة جمع خوَذ: خود (جو لڑنے والا سر کو بچانے کے لئے پہنتا ہے) خوذان الناس: لوگوں کے خدمتگار۔

○ خُوذة جمع خوذات و خوَذ: خود، لوہے کی ٹوپی۔

خار اخارَ ـُ خُوارًا البقرُ: گائے کا ڈکارنا، آواز کرنا اخارہُ: کو موڑنا، جھکانا، مائل کرنا۔ کہا جاتا ہے اخرنا الابلَ الی موضع کذا: ہم نے اونٹوں کو فلاں مقام کی طرف موڑ دیا تخاورتِ الثیرانُ: بیلوں کا ایک دوسرے پر آواز نکالنا۔ استخارہُ: کی طرف سے مہربانی کا خواہش مند ہونا الخُوار (مص): گائے کی آواز (بکریوں، ہرنوں اور تیر کی آواز پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔) فرسٌ خوّارُ العِنان: جلد تابع ہونے والا تیز رفتار گھوڑا۔

۲ خارَ ـُ خُؤورًا و خوِرَ ـَ خوَرًا: ست ہونا، کمزور ہونا، ٹوٹنا ـت قوّةُ المریض: بیمار کی طاقت گھٹ جانا خوّرَ: کمزور ہونا، ڈھیلا ہونا ـ الرجلَ: کسی کی کمزوری کی طرف نسبت کرنا۔ ـتِ الارضُ: بارش کی کثرت سے زمین کی مٹی کا نرم ہونا الخوّار: کمزور، ڈھیلا، بزدل۔

۳ خارَ ـُ خوْرًاہُ: کے چوتڑ پر مارنا۔ کہا جاتا ہے طعنَه فخارہُ: اس نے اس کے چوتڑ پر مارا الخوْران جمع خورانات و خوارین: گوبر، لید بہنے کی جگہ۔

۴ استخارَ المنزلَ: منزل کو صاف کرنا۔

۵ الخوْر: دو بلند مقامات کے درمیان پست و نشیبی قطعہ زمین الخوّار من الزناد: چقماق۔

۶ الخُوریّ جمع خوارنة: کاہن (یونانی لفظ) الخوریّ اُسقفی: نائب اسقف۔ مشرقی کلیسا میں ایک رتبہ الخُورُس: گرجا میں مذہبی خادموں کے قیام کی جگہ (یونانی لفظ)۔

○ خارَ ـُ خُوارًا: (مویشیوں کا) آواز نکالنا، ڈکرانا خوِرَ ـَ خوَرًا و خارَ ـُ: طاقت میں یا زور میں زوال پذیر ہونا، کمزور ہونا، کم ہمت، کم حوصلہ یا مردہ دل ہونا، ست ہونا، کاہل ہونا، مضمحل ہونا کملانا، مرجھانا، ڈھیلا ہونا، ست پڑ جانا، گھٹنا، سکڑنا، سمٹنا، کم ہونا، روبہ تنزل ہونا طاقت کا ختم ہوجانا خوْر جمع اخوار و خیران: چھوٹی کھاڑی، کھاڑی، خلیج۔

خوَر: کمزوری، تھکن، تکان، ضعف، ناتوانی، ڈھیلا پن، سستی، آلکسی خُوار: ڈکارنا، مویشیوں کی آواز۔

خوّار: کمزور، تھکا ماندہ، ناتواں، ست، کاہل، مضمحل، بے طاقت خُوری جمع خوارنة: پادری پادری کا مددگار خورُس: سماع خانہ (گرجا کا) خانہ۔

خاز اخازَ ـُ خوزًاہُ: سے دشمنی کرنا، عداوت رکھنا۔

○ خوزقَ ہ: کے جسم میں میخ ٹھونک کر اسے ہلاک کرنا، کو زچ کر دینا، کو کونے میں کر دینا، مشکل میں ڈالنا۔

خازوق: کھمبا، بری چال، دھوکا۔

خاس خاسَ ـُ خوَساتِ الجیفةُ: لاش کا سڑنا۔ ـتِ البضاعةُ: سامان کا فروخت نہ ہونا۔ ـ العہدَ و بالعہدِ: بدعہدی کرنا ـ بالوعد: وعدہ خلافی کرنا ـ بفلان: سے بے وفائی کرنا خوّسَ الشیءَ: کو کم کرنا۔

○ ورقٌ خوشقٌ: لپیٹنے کا کاغذ، سیاہی چوس، جاذب۔

خاش اخاشَ ـُ خوشًاہُ بالرمح: کو نیزے سے مارنا ـ الرجلُ: بھیڑ میں گھس جانا۔

۲ خاشَ ـُ خوشًا الشیءَ: چیز کو لینا۔

۳ خوّشَ الشیءَ: چیز کو کم کرنا تخوّشَ الشیءَ: چیز کو کم کرنا۔ ـ الرجلُ: فربہ ہونے کے بعد لاغر ہونا۔ الخوْش: پہلو التخویش: کم کرنا، کمی۔ المتخوّش و المتخاوِش: چھریرا دبلے بدن والا۔

۴ الخوشان واحد خوشانة (ن): ایک قسم کی ترش گھاس۔

خوص اخوِصَ ـَ خوَصًا: کی آنکھ کا گڑھے میں بیٹھنا۔ صفت: اَخوص مؤنث خوصاء جمع خوص۔ خاوصَ و تخاوصَ: نیم وا آنکھوں سے دیکھنا۔ ـتِ النجومُ: ستاروں کا مائل بغروب ہونا۔ الخوْصاء: گرم ہوا۔ کہا جاتا ہے خرجوا فی الظهیرة الخوصاء: وہ دوپہر کی سخت گرمی میں نکلے۔

۲ خوِصَ ـَ خوَصًا ـتِ الشاةُ: بکری کا سفید جسم اور ایک آنکھ سفید اور ایک سیاہ والی ہونا خوّصَہُ الشیبُ: میں بڑھاپے کا آغاز ہونا۔

۳ خوّصَ: پہلے شریف لوگوں پھر رذیل لوگوں کا اکرام کرنا۔ ـ العطاءَ: بخشش کم کرنا، کہا جاتا ہے: خوّص ما اعطاك: جو کچھ وہ تم کو دے لے لو اگرچہ کم ہو تخوّصَ الشیءَ: چیز تھوڑی ہونے پر بھی لے لینا۔ ـ العطیةَ: عطیہ تھوڑا تھوڑا کر کے لینا۔

۴ خوّصَ التاجَ: تاج کو سونے کے پتروں سے سجانا۔

۵ خاوصَ مخاوصةً البیعَ: سے بیچنے میں مقابلہ

کرنا۔

۶ الخُوصَ النخلُ: کھجور کے درخت کا پتے نکالنا۔ الخُوص (واحد خُوصَۃ): کھجور کے درخت کے پتے الملخَوَّاص: کھجور کے پتے بیچنے والا۔ الخِیاصَۃ: کھجور کے پتے بیچنا۔

○ خُوص (اسم جنس (واحد خُوصَۃ): کھجور کے پتے خُوصَۃ: کھجور کے پتوں کی مینڈھی۔ خِواصۃ: کھجور کے درخت کے پتوں کی مینڈھی بنانے کا فن۔

خاض: اخاضَ ـُ خَوضًا و خِیاضًا الماءَ: پانی میں گھسنا، داخل ہونا۔ الشرابَ: شراب ملانا۔ بالفرس: گھوڑے کو پانی پر لانا۔ الجوادُ فی المیدان: گھوڑے کا میدان میں کلیلیں کرنا۔ فی الحدیث: گفتگو میں مشغول ہونا۔ الغمراتِ: سختیوں میں گھس پڑنا کہا جاتا ہے انہ یخوض المنایا: وہ اپنے آپ کو خطروں میں جھونکتا ہے ھو یخوضُ اللیلَ: وہ رات کو ہولنا کیوں سے نڈر ہو کر اندھادھند بڑھتا ہے خَوَّضَ الماءَ: پانی میں گھسنا خاوَضَ مُخاوَضۃً الفرسَ: گھوڑے کو پانی میں داخل کرنا اَخاضَ اِخاضۃً الفرسَ: گھوڑے کو پانی میں داخل کرنا اَخاضُوا الماءَ: اپنے جانوروں کو لے کر پانی میں گھسنا تَخَوَّضَ: پانی میں بتکلف گھسنا تَخاوَضَ القومُ فی الحدیث: لوگوں کا باہم گفتگو میں مشغول ہونا اِختاضَ الماءَ: پانی میں داخل ہونا، گھسنا الملخُوضَۃ: خاض کا اسم مرۃ۔ الخوّاض: بہت گھسنے والا الملمَخاضَۃ جمع مَخاوِض و مَخاض و مَخاضات: پانی میں گھسنے کی جگہ۔ پایاب مقام۔

۲ خاضَ ـُ خَوضًا و خِیاضًا بالسیف: تلوار کو مضروب (زخم) میں حرکت دینا، ہلانا۔

۳ الملخَوضَۃ: موتی۔

○ خاضَ ـُ خَوضًا و خِیاضًا (ہ): (پانی) میں پایاب جانا۔ ہ: میں یکا یک کود پڑنا، گھس جانا، ڈبکی لگانا، غوطہ مارنا، غائب ہو جانا، میں اندھادھند کود پڑنا، تیزی سے جانا۔ ہ: سے جرات کے ساتھ نبٹنا، کا بہادری سے آغاز کرنا۔ ہ/فی: کے آرپار ہونا، میں منہمک یا مستغرق ہونا۔ فی: (کسی موضوع) کی تفصیلات میں جانا، کی طرف توجہ کرنا کو جاری رکھنا، خاضَ المعرکۃ: جنگ میں تیزی سے جانا خاض غِمارَ الحرب: جنگ میں داخل ہو جانا خَوَّضَ: (میں) یکا یک کود پڑنا، گھس جانا، تیزی سے جانا (جنگ، مذاکرات) میں داخلہ، داخل ہونا۔ فی: (موضوع کا) جائزہ، پر بحث مَخاضَۃ جمع مَخاضات و مَخاوِض: پایاب مقام۔

خوط: تَخَوَّطَہُ: کے پاس وقتاً فوقتاً آنا الملخُوط جمع خیطان: نرم ٹہنی یا ہر شاخ۔

خاف: اخافَ ـَ خَوفًا و خِیفًا و مَخافَۃً و خِیفَۃً: ڈرنا، محتاط ہونا، خوف زدہ ہونا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: خافَہُ و خافَ مِنہُ و خافَ علَیہِ: وہ اس سے ڈرا، خوف زدہ ہوا، کے بارے میں پریشان ہوا) صفت: خائِف جمع خُوف و خُیَّف و خِیَف و خائفون۔ خَوَّفَہُ: کو ڈرانا۔ الطریقَ: راستہ کو خوفناک بنانا خاوَفَہُ: سے ڈرنے میں مقابلہ کرنا، پر خوف میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے: خاوَفَنی فخفتُہُ أخُوفُہُ: ڈرنے میں جب میرا اس سے مقابلہ ہوا تو میں اس پر غالب رہا یعنی میں اس سے زیادہ ڈرنے والا ثابت ہوا الملخافَ اِخافَۃً ہُ: کو ڈرانا۔ الطریقَ: راستہ کو گھبراہٹ میں ڈالنا۔ تَخَوَّفَ: ڈرنا، خوف زدہ ہونا محتاط ہونا، خوفناک ہونا۔ علیہ شیئاً: پر سے خوف کھانا۔ الخاف: بہت ڈرنے والا الملمُخافَۃ: چمڑے کا لباس جو شہد نکالنے والا پہنتا ہے، وہ شے جس کے ذریعہ پھلوں کو چنا جاتا ہے الملخُواف: شورو غل۔ الخِیفَۃ جمع خِیَف: ڈرنے والے کی حالت الملمَخُوف: خوفناک۔ کہا جاتا ہے طریقٌ مَخُوفٌ: خوفناک راستہ، وہ راستہ جس میں طرح طرح کے خوف ہوں۔

۲ تَخَوَّفَ الشیءَ: کو آہستہ آہستہ کم کرنا الحقَّ: حق مار لینا۔

○ خافَ ـَ خَوفًا و مَخافَۃً و خِیفَۃً: ڈرنا، خائف ہونا۔ ہ/ہ/ من: سے خائف ہونا، ڈرنا، دہشت زدہ ہونا، دہشت کھانا۔ علی: کے بارے میں پریشان ہونا۔ اَن: پریشان ہونا کہ... خَوَّفَ و اَخافَ ہُ: کو ڈرانا، خائف کرنا، چوکس کرنا، ہوشیار کرنا، گھبرا دینا، دہشت زدہ کرنا، خوف سے بھر دینا۔ تَخَوَّفَ: بمعنی خاف۔ خَوفٌ من: کا ڈر، کی دہشت خَوفًا من: کے ڈر سے، پر تشویش کے باعث خِیفَۃً من: کا خوف، کی دہشت خَوَّاف، خَوِیف: بزدل، بے ہمت، ڈرا ہوا، سہا ہوا، ڈرپوک، بودا اَخوَف: زیادہ بزدل، زیادہ ڈرپوک، زیادہ بودا زیادہ دہشت ناک مَخافَۃ: ڈر، خوف مَخافَۃَ اَن: اس خوف سے کہ، خائف کہ مَخاوِف (مَخافَۃ کی جمع): طرح طرح کے خوف، اندیشے، پریشانیاں، دہشتیں، خطرے، سخت خطرے تَخوِیف و اِخافَۃ: دھمکی، ڈر، غنڈہ گردی، رعب ڈالنا، ڈرانا، خائف کرنا مُتَخَوِّف: خوف، ڈر خائِف جمع خُوَّف: بزدل، ڈرا ہوا، سہا ہوا، ڈرپوک، بودا، دہشت زدہ، —مِن: سے چوکس ہوشیار، خائف —علی: کے بارے میں پریشان تشویش زدہ، کے لئے تشویش مند، پریشان مُخُوف: ڈرا ہوا، خطرناک، سخت خطرے کا مُخِیف: خوف پیدا کرنے والا، دہشت ناک، خوفناک، ڈراؤنا، ہولناک۔

خوق: اخوِقَ ـَ خَوَقًا و انخاقَ و تَخَوَّقَ: وسیع ہونا، کشادہ ہونا صفت: اَخوَق مؤنث خَوقاءُ جمع خُوق۔ خَوَّقَ ہُ: کو وسیع کرنا، کشادہ کرنا الملخاقَ اِخاقَۃً: زمین میں پھرنا تَخَوَّقَ عنہ: سے دور ہونا الملمَخوَق: وسعت، کشادگی مکانٌ مُنخاق: کشادہ جگہ۔

۲ الملمَخُوَق: کھجلی، خارش الملاَخوَق: خارش زدہ، کانا، یک چشم۔

خال: اخالَ ـُ خَولاً و خِیالاً المواشیَ: مویشیوں کی نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا فلانٌ علی اَھلہ: اپنے اہل و عیال کا انتظام و انصرام کرنا، ان کے لئے کافی ہونا۔ خَولاً: تنہائی کے بعد غلاموں والا ہونا خَوَّلَہُ الشیءَ: کو چیز عطا کرنا، بخشنا، کو چیز کا مالک بنانا۔ تَخَوَّلَ فُلاناً: کی نگہبانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اِستَخوَلَ ھم: کو اپنے لونڈی غلام بنانا الملخَوَل جمع خَوَلِیّ: غلام، لونڈیاں اور دیگر حاشیہ بردار لفظ واحد ہے اور سب کے لئے جمع کے معنی دیتا ہے۔ کبھی واحد کے لئے خائل کا لفظ آتا ہے۔ تخویل (مالک بنانا) سے ماخوذ ہے۔ بعض کے نزدیک رعایہ سے الملخال: چیز کا مالک۔ آپ کہتے ہیں اناخالُ ھذا الفرس: میں اس گھوڑے کا مالک ہوں الملخائِل (فا) (کہا جاتا ہے ھو خائِلُ مالٍ: وہ مال کا منتظم و مدبر ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ھو خالُ مالٍ (ہمزہ محذوف کے ساتھ) وہ مال کا مالک ہے) خَوَل کا واحد الملخَوَلِیّ جمع خَوَل: مال کا اچھا انتظام کرنے والا اور نگہبان۔

۲ الخالَ فیہ خالاً من الخیر و اخالَہُ: میں فراست سے بھلائی کا پتہ لگانا تَخَوَّلَ فیہ خالاً من الخیر و تَخَیَّلَ تَخَوُّلاً و تَخَیُّلاً: میں بھلائی معلوم کرنا الملخال: (خیر) کا نشان۔

۳ الملخُوَل و اُخوَل: ماموں والا ہونا۔ تَخَوَّلَ خالاً: کو ماموں بنانا اِستَخوَلَ و اِستَخالَ فیھم

(ان) کو ماموں بنانا۔ یا (ان میں) سے ماموں بنانا۔ الخال جمع اَخْوَال و اَخْوِلَة و خُؤُول و خُوَّل و خُؤُولَة ماموں۔ الخالَة جمع خالات خالہ آپ کہتے ہیں: هما ابنا خالة: وہ دونوں ایک دوسرے کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ الأخْوَل: بہت سے ماموؤں والا۔ رجل مُخْوِلٌ و مُخْوَل و مُخَال: شریف ماموؤں والا۔ الخُؤُولَة: ماموں ہونے کا رشتہ۔

۴۔ الخال: فوج کا جھنڈا۔ الخَوْلَة (ج) ہرنی۔

○ خَوَّلَ ہ ہ یا۔ل ہ: کو کوئی چیز دینا، عطا کرنا مرحمت کرنا کو (مراعات) دینا، کا (حق) ماننا یا تسلیم کرنا کا کچھ کرنے کا اختیار تسلیم کرنا۔۔ہ ہ یا ل ہ: کو کوئی (قانونی حق) دینا، کو (خوبی) عطا کرنا۔ خال جمع اَخْوال و خُؤُول و خُؤُولَة ماموں (جمع خِیلان): (چہرے پر) تل، پیدائشی نشان۔ داغ، حسین خط۔ خالَة جمع خالات خالہ۔ خَوَل: جائداد منقولہ، خانگی سامان، مویشیوں اور غلاموں پر مشتمل ملکیت، نوکر چاکر، رقاص، زنانہ شخص، خَوَلِیّ (کھیتوں یا باغوں کا) نگران، منتظم، مالی، باغبان۔ خُؤُولة ماموں کا رشتہ۔ مُخَوَّل ب کا مختار، مجاز۔

خام: خَامَ ـُ خَوَمَانَاتِ الارضُ: زمین کا صحت کے ناموافق ہونا۔ اَخَام اِخَامَةً الفرسُ: گھوڑے کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔ الخَام جمع اَخْوام: سوتی کپڑا۔

○ خاد (دیکھو خام) ابجدی ترتیب سے)

خان ۱۔ خَانَ ـُ خَوْنًا و خِیانَةً و مخانَةً و خَانَةً فی کذا: میں خیانت کرنا۔ ۔العهدَ: عہد توڑنا کہا جاتا ہے: خَانَهُ العهدَ او الامانةَ: سے عہد میں پورا نہ اترنا یا کی امانت میں خیانت کرنا۔ صفت: خائِن جمع خُوَّان و خَانَة و خَوَنَة۔ ۔هُ سیفُهُ: کی تلوار کا اچٹ جانا۔ ۔هُ الدهرُ: زمانہ کا کسی کی حالت کو فراخی سے تنگی میں تبدیل کر دینا۔ ۔الدلوَ الرشاءُ: ڈول کی رسی کا ٹوٹ جانا۔ خَوَّنَ هُ: کی طرف خیانت کی نسبت کرنا۔ تَخَوَّنَهُ الدهرُ: زمانہ کا کسی کی حالت کو فراخی سے تنگی میں تبدیل کر دینا۔ اِخْتَانَهُ: کی خیانت کرنا۔ اِسْتَخَانَ هُ: کی خیانت کا ارادہ کرنا۔ الخائِنَة: خائن کا مؤنث۔ بہت خیانت کرنے والا۔ (الخائن کے ساتھ ت کا استعمال مبالغہ کا معنی دیتا ہے۔ جیسے راوية میں، جس کا معنی ہے بہت روایت کرنے والا۔ الخؤون و الخوّان: بہت خیانت کرنے والا۔ الخَوَّانَة: بڑا خائن (تاء مبالغہ کی ہے۔ بہت خیانت کرنے والا) سرین۔

۲۔ خَانَ ـُ خَوْنًا: جسمانی طور پر اور نظر میں کمزور ہونا۔ ۔تْهُ رِجْلاهُ: چل نہ سکنا۔

۳۔ خَوَّنَ هُ و خَوَّنَ منه و تَخَوَّنَ: کو آہستہ آہستہ کم کرنا۔ اِخْتَانَ المالَ: مال چرا لینا۔

۴۔ خَوَّنَ و تَخَوَّنَ هُ: کی نگہبانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اسی سے ہے: كانت الحُمّى تَتَخَوَّنُهُ: اس کو بخار وقت پر آتا تھا۔

۵۔ الخان: ترک بادشاہوں کا لقب۔ ۔ جمع خانات: دکان، سرائے۔ (مو) آواز کا زیر و بم (فارسی لفظ)۔ الخُوان والخِوان جمع اَخْوِنَة و خُوُن: دستر خوان۔ عام لوگ اسے سُفْرة کہتے ہیں۔

○ خَانَ ـُ خَوْنًا و خِیانَةً هُ: سے غداری کرنا، بے وفائی کرنا، سے بیوفا ہونا، سے دغا بازی کرنا، کو دھوکا دینا، دغا دینا، فریب دینا، جل دینا، ٹھگ لینا، کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کو مرعوب کرنا۔ ۔زَوْجَتَهُ: اپنی بیوی کو دھوکا دینا۔ ہ: (یادداشت کا) کسی کو دھوکا دینا، غلط خیال دلانا، جل دے جانا۔ ۔ہ: سے الگ ہو جانا، کو چھوڑ دینا، کا وقت پر ساتھ نہ دینا، کا مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ دینا، سے دغا کرنا۔ ۔ہ: کی آواز وغیرہ نہ نکلنا۔ ۔ہ: وعدہ ایفا نہ کرنا۔ ۔عهدًا: عہد توڑنا۔ خَوَّنَ ہ: کو غدار، بے وفا، بے ایمان، ناقابل اعتبار یا، غا باز سمجھنا یا کہنا، پر بھروسہ نہ کرنا، اعتبار نہ کرنا، شک وشبہ کرنا، کے متعلق بدگمانی کرنا سے بدظن ہونا۔ تَخَوَّنَ ہ: کو بگاڑنا خراب کرنا گھٹانا، کمزور کرنا، نقصان پہنچانا، میں خلل ڈالنا، (حق) تلفی کرنا، (جذبات) کو ٹھیس پہنچانا، بے جا اثر ڈال کر موافق بنانا۔ اِخْتَانَ ہ: کو دھوکا دینا، ٹھگنا، سے دغا بازی کرنا، کو احمق بنانا، سے دورخی چال چلنا، کو پکڑوا دینا، کو دغا سے دشمن کے حوالے کرنا۔ اِسْتَخْوَنَ ہ: پر بھروسہ نہ کرنا، اعتبار نہ کرنا، کے متعلق بدگمانی کرنا، سے بدظن ہونا۔ خِیانَة: بے ایمانی بدعہدی، عہد شکنی، وعدہ خلافی، دھوکا، مکر، فریب، کھوٹ، بغاوت، غداری، بے وفائی، سرکشی، دغا بازی، فریب دہی، دھوکا دہی، افشائے راز، دغا نمک حرامی، بے وقوف بنانا۔ نقضِ اعتبار۔ خِیانَةُ الامانَة: اعتبار شکنی۔ خِیانَة عُظمی: بغاوت، غداری۔ خِیانَةُ الوُعُود: وعدہ شکنی۔

خؤون: بے ایمان، غدار، بے وفا، نمک حرام، غدارانہ، دغا باز، ناقابل اعتبار، دھوکے باز، گمراہ کن، فریب دہ، دھوکے میں ڈالنے والا۔ خَوَّان: ناقابل اعتماد، غیر معتبر، بے وفا، غدار، نمک حرام، بے ایمان۔ دغا باز۔ خائِن جمع خُوَّان و خَوَنَة بے ایمان، غدار، بیوفا، نمک حرام، ناقابل اعتماد، غدارانہ، دغا باز، دھوکے باز، جھوٹا، دروغ گو۔

خو: خَوَّ ـُ خَوَّات الدارُ: گھر کا مسمار ہو جانا۔ ۔ت النجومُ: بغیر بارش ہوئے ستاروں کا غروب ہونا۔ الخَوّ: بھوک، کشادہ وادی۔ ۔والخُوّ: شہد۔ الخُوَّة: کشادہ، زمین، فراخ زمین۔

خوی: ۱۔ خَوَی ـِ خَوَاءً البیتُ: گھر کا گرنا، منہدم ہونا، خالی ہونا۔ ۔راسُهُ: نکسیر کی وجہ سے زیادہ خون نکلنے سے سر کا خون سے خالی ہونا۔ ۔خَوًی و خَوَاءً الرجلُ: خالی پیٹ ہونا، بھوکا ہونا۔ خَوِیَ ـَ خَیًّا و خُوِیًّا و خَوَایَةً المکانُ: جگہ کا خالی ہونا۔ خَوَّی تَخْوِیَةً البعیرُ: اونٹ کا بیٹھنے میں پیٹ کو زمین سے اونچا رکھنا اور دونوں یعنی پیٹ اور زمین کے مابین جگہ خالی ہونا۔ ۔الطائرُ: پرندے کا اڑنے میں دونوں بازوؤں کو لٹکانا۔ اَخْوَی اخواءً الرجلُ: آدمی کا بھوکا ہونا۔ اِخْتَوَی اِخْتِواءً: بے عقل ہونا۔ ۔الفرسَ: گھوڑے کی اگلی پچھلی ٹانگوں کے درمیان نیزہ مارنا۔ الخَوَی و الخَوَاء: خالی پیٹ ہونا، دو چیزوں کے درمیان خالی فضاء۔ خَوَاءُ الفرس: گھوڑے کی اگلی پچھلی ٹانگوں کے درمیان کی جگہ۔ الخَوِی: خالی پیٹ والا۔ الأخْوَی مونث خَیَّاءِ و خَوْیاء: بے عقل۔ الخَوِیّ: پست نرم زمین۔

۲۔ خَوَی ـِ خَوًی و خَوَاءً الزندُ: چقماق کا آگ نہ دینا۔ ۔ت النجومُ: ستاروں کا بے بارش کے ہونا۔ اَخْوَی اِخْوَاءً الزندُ: چقماق کا آگ نہ دینا۔ ۔ت النجومُ: ستاروں کا بے بارش کے ہونا۔

۳۔ خَوَی ـِ خَوًی و خَوَایَةً الشیءَ: چیز کو اچک لینا۔ اَخْوَی اِخْواءً ما عند فلان: سے سب کچھ لے لینا۔ اِخْتَوَی اِخْتِواءً ما عند فلان: سے سب کچھ لے لینا۔ ۔البلدَ: شہر کو طے کرنا۔

۴۔ خَوَی ـِ خَیَّات النجومُ (فلك): ستاروں کا غروب ہونے کے لئے جھکنا۔

۵۔ خَوَّی و اَخْوَی تِ الماشیَةُ: مویشی کا بہت موٹا ہونا۔

۶۔ الخَوَاء: پہلے وجود میں مادہ کے عناصر کی آمیزش (یونانی لفظ)

○ خَوَی ـِ خَوَاءً و خَوًی: خالی ہونا، بھوکا ہونا۔ خَوِیَ ـَ خَوَاءً: خالی ہونا، ننگا ہونا، بے کیف ہونا، تیرہ و تار ہونا، اداس کرنے والا ہونا، اجاڑ ہونا، سنسان ہونا، اداس کرنے والا ہونا، اجاڑ ہونا، سنسان ہونا، غیر آباد ہونا، بنجر ہونا۔ خَوَاء و خَوًی: (پیٹ کا) خالی

ہونا، بھوک۔ خَـاوٍ: خالی، اجاڑ، سنسان، بنجر، غیر آباد۔ بے کیف، تیرہ وتار، اداس کرنے والا خَـاوٍ علی عُرُوشِهٖ: مکمل طور پر برباد، ویران، اجڑا ہوا، خاوِی الوفاض، بمعنی خالِي الوِفَاض: خالی ہاتھ، خالی تھیلا یا کیسہ لئے ہوئے، ایک مرتبہ کے شکار میں پکڑی جانے والی مچھلیوں کے بغیر خَاوَی ہ: سے مل جانا، کی صحبت میں شامل ہو جانا، کے ہمراہ ہونا، کے ساتھ ہونا، کا ہمسفر ہونا۔ خُوَی: چھوٹا بھائی۔ خُوَة: مواخات، بھائی پنا، بھائی چارہ، برادری، بھائی بندی، برادرانہ تعلقات، ایک ہی عقیدہ کے لوگ۔ مُـخَاوٍ: برادانہ، بھائی بندی کا، بھائی چارہ کا، دوستداری کا۔

خاب: خَابَ ـِ خَيْبَةً و تَخَيَّبَ: طلب میں ناکام ہونا، کی امید ٹوٹنا۔ کہا جاتا ہے۔ خَـابَ سَعْيُـهٗ: اس کی کوشش ناکام رہی۔ خَيَّبَ و اَخَابَ ہٗ: کو ناکام کرنا، محروم کرنا۔ قدحٌ خَيَّاب: آگ نہ دینے والی چقماق۔ المَخيَبَة: ناکامی کا سبب وباعث۔

○ خَـابَ ـِ خَيْبَةً: ناکام ہونا، ناکام رہنا، (منصوبہ وغیرہ) کا ٹھیک نتیجہ نہ نکلنا۔ محروم ہونا، مایوس ہونا، بے اثر ہونا۔ ناامید ہونا، کی (امید) کا ٹوٹنا، کی (توقع) کا باطل ہونا کی (امید) خاک میں ملنا، کی (آس) ٹوٹنا، (کے اخلاق) بگڑنا، مشین وغیرہ کا خراب ہونا۔ خَيَّبَ و اَخَابَ: ناکام کرنا، ـہ: کو ناکام بنا دینا، کی راہ میں حائل ہونا، مزاحم ہونا، کو بے اثر کرنا، (تجویز) کو خراب کر دینا۔ ـآمَالَـهٗ: کی امیدوں کو توڑنا، کی آس توڑ دینا۔ تَخَيَّبَ بمعنی خَابَ، خَيْبَة: ناکامی، منصوبہ (یا تجویز کی) ناکامی، خط کا پتے پر نہ پہنچنا، شکست، مایوسی، محرومی، ناکام رہنا، ناکامی ٹائیں ٹائیں فش ہونا، ناامیدی۔ وَلَدُ خَيْبَة اور بِنتُ خَيْبَة: ناکارہ شخص۔ خَـائِبٌ: ناکام، رائیگاں، لاحاصل، ناامید، مایوس۔

خات: خَاتَ ـِ خَيْتًا و خُيُوتًا: آواز کرنا۔

خار: ا۔ خَارَ ـِ خَيْرًا: صاحب خیر ہونا۔ ـاللّٰهُ لكَ فی الأمـــر: اس کام میں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بہتری کرے۔ خَايَرَهٗ فی العلم فَخَارَهٗ: علم میں کسی سے سبقت لیجانا۔ الخَيْر جمع خُيُور: خیر، بھلائی، چیز کا اپنے کمال کو پہنچنا۔ مال۔ جمع اَخْيَـار و خِيَـار: بہت خیر والا۔ خیر: اسم تفضیل، اَخْيَـر کا مُـخَـفَّف مونث خَيْرة۔ کہا جاتا ہے: فلانة خَيْرَةُ الناس و خَيْـرُهم: فلاں عورت سب لوگوں سے اچھی ہے۔ الخِير: بزرگی، شرافت، اصل۔ الخَيْرَة جمع خَيْرات: بہت خیر والی عورت، عمدہ چیز۔ الخَيْرِيَّة: عمدگی، برتری۔ الخَيّر مؤنث خَيِّرة: کریم۔ بزرگ الخَيْرَى و الخَوْرَى و الخُورَى و الخِيرَى: خیر میں اسمائے مبالغہ۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ خَيْـرَى: بہت خیر والا آدمی۔

۲۔ خَـارَ ـِ خِيَرَةً و خِيَرَةً و خِيَرًا الشیءَ علی غیرہ: ایک چیز کو دوسری پہ فضیلت دینا، برتری دینا۔ ـہٗ: کو منتخب کرنا، پسند کرنا اسی سے ہے: اَللّٰهُـمَّ خِرلی: اے اللہ میرے لئے دونوں باتوں میں سے بہتر کا انتخاب فرما۔ خَيَّرَ الشیءَ علی غیرہ: ایک شئے کو دوسری پہ فضیلت دینا، برتری دینا۔ ـو خَايَرَهٗ فی الامر و بین الامرین: کو دونوں باتوں میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دینا۔ تَـخَيَّرَ و اخْتَارَهٗ: کو چن لینا، منتخب کرنا، کا ذخیرہ کرنا۔ اِسْتَخَارَ اِسْتِخَارَةً: بھلائی و خیر طلب کرنا۔ ـ اللّٰهَ: خدا تعالیٰ سے دعا کرنا کہ بہتر کام اس کے حق میں پسند فرمائے۔ الخِيرَة والخِيَرَة من الشیء او القوم: افضل و اعلیٰ چیز یا قوم۔ الخِيار: پسندیدگی۔ کہا جاتا ہے: انتَ بالخِيار: تم جو چاہو پسند کرو۔ خِيَـارُ الشیء: افضل و اعلیٰ چیز۔ الأخْيَـر مؤنث خِيْـرَى و خُورَى جمع اَخَاير: زیادہ اچھا۔ الـمُخْتَارُ (مفع): کہا جاتا ہے: انتَ بالمختار: جو چاہو پسند کرو۔

۳۔ الخِيَرُ: بیت۔ الخِيَـار (واحد خِيَارَة) (ن): ککڑی، کھیرہ۔ خِيَار شَنْبَر (ن): الماس الخِيْرِی (ن): ایک پھولدار نبات۔ الخَيْرِيَّة: سلطنت عثمانیہ کا ایک پرانا سکہ۔

○ خَـارَ ـِ خیرًا: چننا، انتخاب کرنا، ـہ علی: کو پر ترجیح دینا۔ خَيَّرَهٗ بین۔ فی ـ: کو میں سے، سے کسی چیز کے انتخاب کا اختیار دینا کو میں سے، سے کسی چیز کے چناؤ، انتخاب، یا اختیار کرنے یا پسند کرنے کا حق دینا یا متبادل صورت دینا۔ ـہ علی: کو پر ترجیح دینا۔ خَايَرَہ: کا مقابلہ کرنا، کے خلاف حصہ لینا۔ خَايَرَہ: کا مقابلہ کرنا، کے خلاف حصہ لینا۔ کو انتخاب یا چناؤ کرانا یا کرنے دینا، کو اختیار، حق انتخاب یا متبادل صورت دینا۔ تَـخَيَّرَ ہ / ہ: کو چننا، منتخب کرنا، توڑنا، اکٹھا کرنا۔ اِخْتَـارَ: چننا، منتخب کرنا۔ ـہ/ہ: کو چننا، منتخب کرنا، کا انتخاب یا چناؤ کرنا، کو توڑنا۔ اکٹھا کرنا، کو حاصل کرنے کا فیصلہ کرنا۔ ـہ علی: کو پر ترجیح دینا۔ اِخْتَارَ اللّٰهُ الی جوارِہٖ ـ اللّٰه تعالیٰ ـ کو اپنے پاس لے گیا۔ اِسْتَخَارَ ہ: سے اپنے لئے اچھی یا بہتر (چیز) طلب کرنا یا کی درخواست کرنا۔ ـ: رہنمائی کی اہلیت رکھنے والے سے رجوع کرنا، قرعہ اندازی کرنا۔ استخار اللّٰهَ فی: میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہنا۔ خَيْر جمع خِيَار و اَخْيَار: اچھا، عمدہ، اعلیٰ، ممتاز، برتر، قابل تعریف، بہتر، بہترین۔ جمع خُيُور: اچھی چیز، خدا کی رحمت، دولت، مال، فراوانی، کثرت، تونگری، جائیداد، خیر، نیکی، نفع، فائدہ، مفاد، فوقیت، غلبہ، بہبود، بہبودی، خیرات۔ خیرُ الناس: بہترین شخص خِيَارُ الناس و اَخْيَارُ النـاس: بہترین لوگ، نسل انسانی کا انتخاب۔ هو خیـرٌ منك: وہ تم سے بہتر ہے۔ هو خیر لك: یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ الـخير كل الخير: بہت ہی بہترین۔ الـخير العام: رفاہ عام، رفاہ عامہ، بہبود عام۔ دولة الـخير العام: رفاہی ریاست لِخَيْرِ: کے فائدہ کے لئے۔ لِخَيْرِ اَنْفُسِهِم: ان کی اپنی بھلائی کے لئے اعمال الخَیر: خیراتی کام صباحَ الخَير اور صبـاحك بـالخير: سلام، صبح بخیر۔ ذَكَرَهٗ بالخیر: کا اچھا تاثر رکھنا، کی تعریف، کرنا۔ خَيْرِی: خیراتی، سخی، فیاض، فیض رساں بہی خواہ، انسانی دوستی کا، ہمدردانہ جَمْعِية خَيْرِيَّة: خیراتی ادارہ۔ خَيْرِيَة: خیرات، فیاضی، انسانی ہمدردی، سخاوت، کرم، نیک دلی، بہی خواہی، خیر خواہی، خیر اندیشی، کرم، فیض رسانی، کرم فرمائی، نیکی، بھلائی، احسان۔ خَيِّـر: سخی، فیاض، آزاد خیال، حریت پسند، حاتم، فیاضانہ، خیراتی، مُـخَيِّـر: کرم فرما، مہربان، فیض رساں، بہی خواہ، خیر خواہ شفیق، نیک دل، خَيْرَة جمع خَيْرات: اچھا کام، اچھی چیز۔ جمع خَيْرات: (زمین یا ملک) کے قدرتی وسائل، خزانے، نعمتیں، برکتیں۔ خِيْرَة و خِيَرَة: بہترین انتخاب، شروع، آغاز، شباب، کسی چیز کا بہترین حصہ، عرق یا جوہر، انتخاب، چیدہ، خِيْرِی: ایک قسم کا پھول جس سے لونگ کی خوشبو آتی ہے۔ اَخْيَر مؤنث خِيَـرى و خُورَى جمع اَخَـايِـر: بہتر، برتر۔ خِيَـار: چناؤ، انتخاب، پسند یا انتخاب کا اختیار، قوت انتخاب کا استعمال، پسند یا ناپسند کا اختیار، دست برداری کا حق۔ بہترین، انتخاب، آغاز، شروع، کسی چیز کا بہترین حصہ، عرق یا جوہر، چیدہ۔ خِيَارِی: پسند پر موقوف، اختیاری، رضاکارانہ۔ اِخْتِيَـار: چناؤ، انتخاب (جمع اختیارات) (ـعلی: پر ترجیح) پسند یا انتخاب کا اختیار، آزاد اختیار کا ارادہ۔ اِختیاراً: اپنی مرضی سے، رضاکارانہ طور پر، آپ سے آپ، اپنے آپ، خود بخود۔ اِخْتِيَـارِی: رضاکارانہ، انتخابی (مطالعات)۔ مُخَيَّر: پسند یا انتخاب کا اختیار رکھنے والا۔ مُـخْتَـار فی: چناؤ، پسند یا انتخاب میں

آزاد۔مُختاراً: رضا کارانہ،خود بخود،طبعی طور پر،اپنی مرضی سے۔مُختار: چنا ہوا،ترجیح دیا ہوا،منتخب، پسندیدہ چیدہ،عمدہ،نفیس،مقبول،منظور نظر،دلپسند، پسندیدہ۔مُختارات: انتخاب،منتخب تحریریں،منتخب کلام،منتخب فقرے،گلدستہ نظم۔(جمع مَخاتِیر) گاؤں کا چودھری۔

خیز الخیزران: دیکھو خزر۔

خاس ا۔خاسَ - خَیْساً اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔

۲۔خاس - خَیْساً: کم ہونا۔-البیعُ: سرد بازاری ہونا۔ خَیَّس ہٗ: کو کم کرنا۔

۳۔خاسَ - خَیْساً و خَیَساناً بالعهد: عہد شکنی کرنا، بیوفائی کرنا،دغا دینا۔-بالوعد: وعدہ خلافی کرنا۔

۴۔خاسَ - خَیْساً الرجلُ: جھوٹ بولنا۔الخَیْس: جھوٹ۔

۵۔خاس - خَیْساً الرجلُ: ذلیل ہونا۔-الرجلَ او الـدابّةَ: کسی آدمی یا جانور کو مطیع و تابع دار کرنا۔ خَیَّس ہٗ: کو مطیع و تابع دار بنانا۔کہا جاتا ہے خَیَّسَ الجمل: اونٹ پر سوار ہو کر اس کو سدھانا،رام کرنا،کو روکنا۔المُخَیَّس و المُخَیِّس: جانور کو سدھانے کی جگہ۔جیل،قید خانہ۔

۶۔الخَیْس: غم،گمراہی،خیر و بھلائی۔الخِیس جمع اَخْیـاس: گنجان اور گھنا درخت،شیر کی جھاڑی۔ الخِیسة جمع خِیَس: شیر کی جگہ۔

○ خاسَ - خَیْساً و خَیَساناً ب: (عہد یا وعدہ) پورا نہ کرنا۔

خاش: خاشَ - خَیْشاً مافی الوعاء: برتن کی چیز نکال دینا۔الخَیْش: کمینہ آدمی۔- جمع خُیُوش و اَخْیاش (واحد خَیْشَة): کتان کا بنا ہوا کھردرا کپڑا۔مِروَحةُ الخَیْش: کتان کے کھردرے کپڑے کا پنکھا،جسے اہل عراق گیلا کر کے چھت سے لٹکایا کرتے تھے اور اس سے بندھی رسی کو بار بار کھینچنے سے کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی تھی۔الخَیّاش: کتانی کھردرا کپڑا بیچنے والا۔

○ خَیْش: سن کا کپڑا،ٹاٹ،کرنچ،ولائتی ٹاٹ،بوریا کینوس (Can vas)۔خَیْشَة: ٹاٹ،بورے،سن کے کپڑے کا ٹکڑا (جمع خَیْشات و خِیَش): بورا، تھیلا،گھاس پھوس کی چٹائی۔ نیچے کا موٹا گدا،پیالی۔ بدوی خیمہ۔

خاص ا۔خاصَ - خَیْصاً: تھوڑا ہونا۔صفت: خائِص الخَیْص: تھوڑی سی چیز۔کہا جاتا ہے نِـلـتُ منه خَیْصاً خائصاً: میں نے اس سے تھوڑی سی چیز پائی۔الخُیَیْصَی: تھوڑی (چیز)۔کہا جاتا ہے: فی المرعی خیصی من العشب: چراگاہ میں گھاس تھوڑی سی ہے۔الخَیْصان: تھوڑا مال۔

۲۔خَیِص - خَیَصاً: چھوٹی بڑی آنکھوں والا ہونا۔ صفت: اَخْیَص مؤنث خَیْصاء۔

خاط: ا۔خاط - خَیْطاً الثوبَ: کپڑا سینا۔صفت: فاعلی خائِط و خاطٌ و خَیَّاط۔صفت مفعولی: مَخِیط و مَخْیُوط بمعنی سلا ہوا کپڑا۔خَیَّطَ الشیبُ فی راسه: سر میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا۔تَخَیَّطَ راسُهٗ بالشیب: سر میں بڑھاپے کے آثار شروع ہونا۔الخَیْط جمع خُیُوط و خُیُوطة و اَخْیـاط: دھاگا،ڈورا،تسلی،ڈوری،پیکٹ یا گڈی باندھنے کی رسی،پھول کے زرعضو کا ریشہ دار حصہ جو بنیادی چیز کا حامل ہوتا ہے۔الخَیْطُ الأبیَض: صبح کی روشنی۔الخیط الأسوَد: رات کی تاریکی۔خَیْطُ باطِلٍ: ترمرے۔کہا جاتا ہے هو ادقّ من خیط بـاطـلٍ: وہ ترمروں سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ الخِیاط و المِخْیَط: سوئی۔الخِیاطَة: درزی کا پیشہ۔

۲۔خاط - خَیْطاً الحَیّةُ: سانپ کا زمین پر رینگنا۔ اسی سے ہے: هذا مَخِیطُ الحیّة: یہ سانپ کے رینگنے کی جگہ ہے۔

۳۔خاطَ - علیه خَیْطَةً: پر ایک ہی دفعہ گزر جانا یا تیزی سے گزر جانا۔اِخْتاط و اِخْتَطَی الیه: پر ایک ہی دفعہ گزرنا یا تیزی سے گزرنا۔

۴۔الخَیْط جمع خِیطان من النعام او الجراد: شتر مرغ کا ریوڑ یا ٹڈی دل۔-من الرقبة: حرام مغز۔ کہا جاتا ہے: جاحشَ عن خَیْطِ رقبته: اس نے اپنے خون کا دفاع کیا۔خَیْط باطِلٍ: ہوا۔الخیط والخَیْطی من النعام او الجراد: شتر مرغ کا ریوڑ یا ٹڈی دل۔

○ خاطَ - خَیْطاً و خِیاطَةً ہ: کو سینا،ٹانکے لگانا،کا بخیہ کرنا،کی سلائی کرنا۔خَیْط جمع خُیُوط و اَخْیاط و خِیطان: دھاگا،تسلی،ڈوری،بان،رسی،ریشہ، پیکٹ یا گڈی باندھنے کی رسی،فیتہ،تار،سوت،ریشہ دار چیز۔خیط اَمَلٍ: امید کی کرن۔خُیَیْطِیّ: ریشہ دار،دھاگے جیسا۔خیاطه: سوئی۔خِیاطة: سینا، سلائی،سوئی سلائی کا کام،گون دوزی۔آلةُ الخِیاطَة: سلائی کی مشین۔خَیّاط جمع خَیّاطون: درزی خَیّاطَة جمع خَیّاطات: گون دوز،درزن۔

مِخْیَط: سوئی۔خائِط: درزی۔

خیع: خَیْعَلَ ہٗ: کو بلا آستین کی قمیص پہنانا۔تَخَیْعَلَ: بلا آستین کی قمیص پہننا۔الخَیْعَل: بلا آستین قمیص (ح): بھیڑیا،چھلاوہ،غول بیابانی۔

خیف: ا۔خَیِفَ - خَیَفاً: ایک نیلی اور دوسری سرگین آنکھوں والا ہونا۔صفت: اَخْیَف مؤنث خَیْفاء جمع خِیف۔تَخَیَّفَ الواناً: مختلف رنگوں والا ہونا،رنگ برنگ ہونا۔الخَیْفان (واحد خَیْفانَة) (ح): رنگ برنگ پروں والی ٹڈی۔

۲۔خَیَّفَ عن القتال: لڑائی سے منہ موڑنا۔

۳۔خَیَّفَ القومُ: کسی جگہ اترنا۔

۴۔خَیَّفَتِ المراةُ باولادها: اخیافی بھائیوں کی ماں ہونا۔الأخْیـاف: مختلف لوگ۔کہا جاتا ہے ہم اخوةُ اَخْیاف اوبنو اخیاف: ان کی ماں ایک اور باپ الگ الگ ہیں۔وہ ماں کی طرف سے بھائی۔ ماں جائے بھائی ہیں۔

۵۔الـخَیْف: پہاڑ کے دامن میں اونچی نیچی زمین۔پانی بہنے کی جگہ سے اونچی جگہ۔تھن کی کھال۔الخَیْفَة: چھری،شیر کی جھاڑی۔الخَیْفاء جمع خَیْفاوات و خِیف: کشادہ تھنوں والی۔الخَیْفان (واحد خَیْفـانَة): لوگوں کی کثرت۔(ن): ایک پہاڑی بوٹی۔

خال: ا۔خالَ - خَیْلاً و خِیلاً و خـالاً و خَیْلَةً و خِیلَةً و خَیَلاناً و خَیْلُولَةً و مَخِیلَةً و مَخالَةً الشیءَ: کا خیال کرنا،گمان کرنا۔اس کا مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ اِخالُ و اَخالُ ہے۔خُیِّلَ اِلیه و لَـهٗ انّـهٗ کذا: ایک چیز کو وہم سے کوئی اور چیز خیال کرنا۔خَیَّلَ تَخْییلاً السحابُ: بادل کا گرجنا، چمکنا اور برسنے کے قریب ہونا۔فیه الخیرَ: میں بھلائی کے نشان معلوم کرنا۔-تخییلاً و تَخْییلاً علیه: پر تہمت لگانا۔خایَلَتِ السحابة: بادل کا بارش کی امید دلانا۔اَخْیَلَتِ السماءُ: بادل کا برسنے کے لئے تیار ہونا۔-ت الناقةُ: اونٹنی کے تھنوں میں دودھ ہونا۔-القومُ: ایسے بادل کو دیکھنا جس سے بارش کے برسنے کی امید کی جائے۔اَخْیَل القـوم: بمعنی اخیل القوم: یعنی ایسے بادل کو دیکھنا جس سے بارش برسنے کی امید کی جائے۔علیه الشیءُ: کا کسی پر دشوار و مشتبہ ہونا۔تَخَیَّلَ له انه کذا: شبہ ہونا اور وہم ہونا کہ وہ ایسا ہے۔-ت السحابة: بادل کا بارش کے نشانات لے کر ظاہر ہونا۔-ہٗ: کو فراست سے معلوم کرنا۔-فیه الخیرَ: میں بھلائی

کے نشان معلوم کرنا۔ — علیہ: میں فراست سے بھلائی کا پتہ لگانا۔ اِستَخَالَ السحابۃ: بادل کو دیکھ کر اس کو برسنے والا خیال کرنا۔ الخال جمع خیلان: گمان، وہم۔ ضرور برسنے والا بادل، بجلی، بخی آدمی۔ الخَیَال جمع اَخیِلَۃ: گمان، وہم۔ —والخَیَالَۃ جمع خَیَالات: خواب میں دکھائی دینے والی صورت۔ شکل انسانی، سایہ، وہمی صورت۔ خیال۔ دھوکا یعنی کھیتوں میں نصب کی ہوئی وہ بناوٹی انسانی شکل جس کو دیکھ کر جانور اور پرندے ڈریں۔ اور اس کو انسان سمجھیں۔ الخَیَالات: بیداری میں دکھائی دینے والے انسانوں اور درندوں کی صورتیں جو پاگل پن اور بخاروں کے اعراض ہوتے ہیں۔ (طب): آنکھ کے سامنے محسوس ہونے والے رنگ گویا وہ فضا میں پھیلے ہوئے ہیں اور مچھروں وغیرہ جیسی شکلیں جو ہوا میں پھیلی ہوتی ہیں اور غالباً آنکھ میں پانی اترنے کا اعلان ہیں۔ المخِیل: بھلائی کا اعلان کرنے والا، جس سے نیکی کی امید کی جائے۔ کلامٌ مخیل: مشکل کلام۔ الاخیَل: ایک بدشگونی کا پرندہ۔ المُخَیِّلَۃ والخَیَالِیَۃ: قوت متخیلہ یا خیالیہ۔ السحابۃُ المُخیلۃ و المَخِیلَۃ و المُخیّلۃ و المختَالۃ: وہ بادل جس کے برسنے کی امید ہو۔ المَخِیلَۃ جمع مَخَایِل: بدگمانی، اندیشہ، وسوسہ۔ المَخَایِل من السُحُب: بارش کی امید دلانے والے بادل اسی سے ہے: ظہرت فیہ مَخَایِلُ النجَابۃ: اس میں شرافت کی نشانیاں نمایاں ہو گئیں۔

۲۔ خَیَّلَ تَخیِیلاً عن القوم: کمزور اور بزدل ہونا۔ الخَال جمع خِیلان: کمزور دل یا کمزور جسم والا آدمی۔

۳۔ خَایَلَ ہٗ: سے فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ تَخَیَّلَ الرجلُ: تکبر کرنا۔ تَخَایَلَ تخَایُلاً و اِختَالَ اِختِیالاً: اکڑ کر چلنا، تکبر کرنا۔ الخال جمع خِیلان: تکبر، متکبر آدمی۔ الخَالۃ: مغرور عورت۔ الخائل جمع خالۃ: متکبر۔ مغرور۔ الأخَایِل: متکبر، مغرور۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ اُخایِل: متکبر آدمی۔ الخُیَلاء والخِیَلاء و الخَیلۃ: خود پسندی، غرور۔

۴۔ اَخیَلَ واِختَالَ المکانُ بالنبات: جگہ کا سبزہ سے بھرا ہوا ہونا۔ ارضٌ مُتَخَیِّلَۃ و مُتَخَایِلَۃ: اپنی مدت پر آ کر پھولنے والی زمین۔

۵۔ تَخَیَّلَ علیہ: کو پسند کرنا۔

۶۔ الخال جمع خِیلان: بڑا پہاڑ، جھنڈا، نرم کپڑا۔ بے بیوی والا، چھوٹا ٹیلہ، گھوڑے کی لگام، کفن: بدن کا تل۔ گال کا تل، — من النسب: ماموں (دیکھو خول) الخَیل جمع خُیُول و اَخیَال: گھوڑوں کا گروہ۔ مجازاً سوار گھڑ سوار۔ کہا جاتا ہے: أَتَی بِخَیلِہٖ و رَجلِہٖ: وہ سواروں اور پیادوں کو لے آیا۔ الأَخیَل م خَیلاء جمع خِیل و اَخَایِل: بدن پر تل رکھنے والا۔ —والمخِیل والمَخیُول: بدن پر تل والا۔ الخَیلان: ایک سمندری جانور جو آدھا انسان اور آدھا مچھلی ہوتا ہے۔ الخَیَّال جمع خَیَّالَۃ: سوار، گھوڑوں والا۔ الخَیلِیَات (ح): گھوڑے، گدھے وغیرہ پر مشتمل جانوروں کی ایک قسم۔

○ خالَ ـَ اَن: تصور کرنا کہ، خیال کرنا کہ، یقین کرنا کہ، فرض کرنا کہ، گمان کرنا کہ۔ — ہ: کو کوئی سمجھنا، خیال کرنا، تصور کرنا، قیاس کرنا۔ — ہ: کو کچھ سمجھنا، خیال کرنا، تصور کرنا۔ خَیَّلَ الی ان: کو باور کرانا کہ — الی ہ: کو کا خیال دلانا، کو کی تجویز پیش کرنا، کو تاثر دینا کہ۔ خُیِّلَ الیہ (لہٗ) ان: اس نے تصور کیا، گمان کیا یا خیال کیا گ......اسے ایسا لگا کہ، اسے معلوم ہوا جیسے۔ علی ما خَیَّلَتُ النفسُ: جیسا کہ دل کہتا ہے، اگرچہ اس کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی، جیسا کہ ہوتا ہے، بے جھجک، بے سوچے سمجھے۔ اَخیَلَ: مشکوک ہونا، مشتبہ ہونا، تذبذب ہونا، غیر یقینی ہونا، پیچیدہ ہونا، مشکل ہونا، دشوار ہونا۔ تَخَیَّلَ ہ: کا تصور کرنا، کا گمان کرنا، —ل: کے دل میں آنا۔ کا تصور کرنا، کو لگنا۔ تَخَیَّلَ فیہ الخیر: میں اچھی خصوصیات کا شبہ کرنا، کی اچھی خاصیتوں کا گمان کرنا، کے متعلق اچھی رائے رکھنا۔ تَخَایَلَ لِ ب: کو جھوٹ موٹ جتانا کہ، کے سامنے ایسا کرنا جیسے۔ — : خود غلط یا خود بین محسوس کرنا، خود پسند ہونا، منکسر ہونا، مغرور ہونا، شان و شوکت دکھانے کا رویہ اختیار کرنا، اینٹھ کر چلنا، تحکمانہ انداز اختیار کرنا، اترا کے چلنا، اکڑ کے چلنا، عجیب عجیب خیالات سوچنا، ہر قسم کی وہمی اور خیالی تصورات رکھنا، شکی ہونا، کسی بات کا خبط ہونا، مدہم اور وہمی خاکوں میں ظاہر ہونا۔ —علی: میں نظر آنا، پر دکھائی دینا، کے چکر لگانا۔ کے گرد و پیش پھرتے رہنا، کے لبوں پر (مسکراہٹ) نمودار ہونا، کے چہرہ پر سایہ سا گزر جانا۔ اِختَالَ: بر خود غلط یا خود بین محسوس کرنا، خود پسند ہونا، شان و شوکت دکھانے کا رویہ اختیار کرنا، اترا کے چلنا، اکڑ کے چلنا۔ خَیَال جمع اَخیِلَۃ: جسم سے آزاد روح، بھوت، مردے کی روح جو مجسم نظر آئے، پیکر خیالی، طیف، خیال، تخیل، تصور، واہمہ، وہم کی پیداوار، وہمی صورت، خواب خیال، خواب کی باتیں، ہوا، خیال باطل، خام خیالی، سایہ، شائبہ، جھلک، مدھم عکس یا انعکاس۔ خیال شک: ذرا سا شک۔ خَیالُ الصحراء: ڈراؤنا پتلا۔ جو پرندوں اور جانوروں کو بھگانے کے لئے کھڑا کیا جائے۔ خَیالُ الظِلِّ: سائے کا کھیل۔ خَیَالَۃ جمع خَیالات: بھوت، روح، پیکر خیالی طیف، وہم، وہم کی پیداوار، وہمی صورت، تصور، تخیل، خواب خیال، خواب کی باتیں، خیال باطل، ہوا۔ خَیَالِی: فرضی، موہوم، ذہنی، غیر حقیقی، وہمی، خیالی، تصوری، فکری، ذہنی، باطنی، عالم مثال کا، تصوراتی، تصور کا، مثالی۔ اَخیَل: زیادہ ڈھیٹ، زیادہ مغرور، زیادہ متکبر، زیادہ خود پسند، زیادہ اکڑ باز۔ اَخیَل جمع خِیل و اَخَایِل: سبز رنگ کا کٹھ پھوڑا (پرندہ) خُیَلاءُ (مونث) گمان، تکبر، خود پسندی، خود بینی، نخوت، تمکنت۔ شیخی، ناز، گھمنڈ، خود آرائی آن بان، جاہ و جلال: الخُیَلاء: تکبر سے غرور سے، کبر و نخوت سے۔ خَیلُولَۃ: گمان، تکبر، خود پسندی، خود بینی: بیجا غرور، امارت پرستی۔ بد دماغی تکبر، غرور، تمکنت، تخوت، کبر۔ مَخِیلَۃ: گمان، تکبر، خود پسندی، خود بینی، بیجا غرور، امارت پرستی بد دماغی، تکبر، غرور، تمکنت، نخوت (جمع مَخَایِل) نشان، علامت، طبعی خصوصیت، نمایاں صفت گن، خصوصیت، خاصہ۔ جمع مخایل: نظر، نگاہ، بینائی، جو چیز نظر آئے، سایہ بھوت، سراب، دھوکا، ذہنی تصورات، صورتیں، مورتیں مجسمے، پتلے، شبیہیں، تصورات۔ تخِییل: ڈرامے میں کوئی کردار ادا کرنا۔ فَنُّ تخیِیل: ڈرامہ کا فن۔ تَخَیُّل جمع تَخَیُّلات: تصور، قوت خیال، سراب، وسوسہ وہم، خیال خام، فریب خیال، فریب نظر، تصور کا دھوکا واہمہ، خیال، من کی موج، نرالہ خیال۔ تَخَیُّلِیّ: عجیب، نرالا، وہمی خیالی، انوکھا، فرضی، قیاسی، موہوم، فرضی، ذہنی۔ اِختِیال: خود بینی، غرور، تکبر، شیخی، ناز، گھمنڈ، نخوت، خود پسندی خود آرائی، آن بان، جاہ و جلال، بدماغی، گستاخی، تمکنت، خود بینی، نخوت۔ مُخَیِّلَۃ: قوت متخیلہ، پرواز فکر، قوت خیال، قوت واہمہ خیالی شکلیں پیدا کرنے والی طاقت۔ مُخِیل: مشکوک، مشتبہ، غیر واضح، غیر یقینی، پیچیدہ، مشکل، دشوار، دھندلا، مبہم، الجھا ہوا، بوکھلایا ہوا، پریشان کن، حواس باختہ کرنے والا۔ مُختَال: مغرور، متکبر، شیخی باز، خود بین، خود پسند، اکڑ باز، ڈھیٹ، بدلحاظ گستاخ، دیدہ دلیر۔

○ خَیَّلَ: (گھوڑے کی پیٹھ پر) سرپٹ دوڑنا۔ خَیَّل

جمع خُیُول: گھوڑے، گھوڑے کی طاقت (horsep ower) سِبَاقُ الخیل: گھڑدوڑ۔

خَیَّال جمع خَیَّالة و خَیَّالُون: گھوڑا سوار، سوار۔

خَیَّالَة: گھوڑے سوار فوج، سواروں کا رسالہ۔ سَرِیَّةُ خَیَّالَةٍ: گھوڑے سوار فوج کا دستہ۔

خام: ۱۔ خَامَ ـِ خَیْمًا و خَیَمَانًا و خُیُومًا و خُیُومَةً و خِیَامًا و خَیْمُومَةً: کسی جگہ اقامت کرنا۔ خَیَّمَ: خیمہ لگانا، نصب کرنا، خیمہ میں رہنا۔ ـبالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـت الکرمةُ: انگور کی بیل کا خیمہ کی طرح چھا جانا۔ ـت البقرُ: گائیوں کا اپنے تھان پہ لگے رہنا۔ اَخَامَ اِخَامَةً و اَخْیَمَ اِخْیَامًا الخیمةَ: خیمہ نصب کرنا۔ تَخَیَّمَ المکانَ و بالمکان و فیہ: کسی جگہ اپنا خیمہ نصب کرنا۔

الخَیْمَة جمع خِیَم و خِیَام و خَیْمَات و خِیَم: خیمہ، ڈیرہ، ہر وہ گھر جو اینٹ پتھر مٹی وغیرہ سے نہ بنایا گیا ہو۔ الخِیَامَ: اونٹ کی عماریاں ہودے

الخَیَّام: خیمہ میں رہنے والا، خیمے بنانے والا۔ الخَیْمِی: خیمے بنانے والا، خیمے بیچنے والا۔ المُخَیَّم: خیمہ گاہ۔ الخَیْمِیَات (ن): پودوں کی ایک قسم جن کے پھول خیمے کی شکل کے ہوتے ہیں۔

۲۔ خَامَ ـِ خَیْمًا و خَیَمَانًا و خُیُومًا و خُیُومَةً و خِیَامًا و خَیْمُومَةً عن: بزدل ہونا، پیچھے لوٹنا۔ ـالقومُ فی القتال: جنگ میں کامیاب نہ ہونا۔

۳۔ خَامَ ـِ خَیْمًا و خَیَمَانًا و خُیُومًا و خُیُومَةً و خِیَامًا و خَیْمُومَةً رجلَهُ: پاؤں اٹھانا۔ اَخَامَ اِخَامَةً و اَخْیَمَ اِخْیَامًا الفرسُ: گھوڑے کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔

۴۔ خَیَّمَ الریحَ فی الثوب: کپڑے میں خوشبو بسانا۔ تَخَیَّمَتِ الریحُ الطیبة بالثوب و فیہ: کپڑے میں خوشبو کا بس جانا اور کپڑے کا مہکنا۔

۵۔ الخَام جمع اَخْوَام: وہ شے جس پر کاریگر کا ہاتھ نہ لگا ہو مثلاً وہ الماس جو صیقل نہ ہوا ہو، وہ پتھر جس کو سنگ تراش نے نہ تراشا نہ ہو، وہ چمڑا جس کو دباغ نے رنگا نہ ہو اور وہ کپڑا جس کو دھوبی نے اجلا نہ کیا ہو۔ روئی کا بنا ہوا کپڑا۔ الخَامَة جمع خام و خامات: تر و تازہ گھاس۔ الخِیم: طبیعت، خصلت، تلوار کا جوہر۔

○ خَیَّمَ فی / ب: میں (سکون، خاموشی امن کا) طاری ہونا، پر حکمرانی کرنا۔ خَیْمَةٌ جمع خیمات و خیام و خِیَم: خیمہ، ترپال، تنج، حملہ، شہ نشین سراپردہ، کھیل کے میدان کا بنگلہ (pavilion) مُخَیَّم: ڈیرہ فرودگاہ پڑاؤ۔ خیمہ گاہ، پڑاؤ، چھاؤنی۔ اَخَذَ خِیمَةَ: کی نبض دیکھنا، کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ خِیم: طبیعت، مزاج، کردار، رجحان، جھکاؤ، رغبت، میلان۔

○ خام: حروف تہجی کی ترتیب سے دیکھیے۔

○ خَیَّة جمع خَیَّات: پھندا۔ کمند، جال۔

د

د: تلفظ دال۔ حروف تہجی کا آٹھواں حرف، حروف ابجد میں ۴ کے برابر ہے۔

داب: دَاَبَ- دَاْباً و دَاَباً و دُؤُوباً فی العمل: کوشش و محنت سے کوئی کام کرنا، کام کر کے تھک جانا۔ صفت دَائِب و دؤُدب دَاْباً و دَاَباً الدابّۃَ: جانور کو تیز ہانکنا۔ اَدْاَبَ اِدآبَہٗ: کو تھکا ڈالنا، کو پیہم کوشش کا ضرورت مند بنانا۔ الدَئِب: تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔ اَلدّاَب و الدَاَب (مص): کوشش و مشقت سے کوئی کام برابر کرتے رہنا۔ کسی کام میں لگا رہنا۔

۲۔ دَاَبَ- دَاْباً و دَاَباً و دُؤُوباً فی العمل: کسی کام کو برابر کرتے رہنا۔ صفت: دَائِب و دَؤُوب۔ اَدْاَبَ اِدْابَاَہٗ: کو جاری رکھنا۔ الدَائبان: رات اور دن۔ الداْب و الدَاَب: عادت، شان۔

۳۔ دَاَبَ- دَاْباً و دَاَبَاۃً: کو دھتکارنا، ہکارنا۔

○ دَاَبَ- دَاْباً و دَاَبا و دُؤُوباً فی / علی: پر جمار ہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، میں انتھک ہونا، کو لگاتار کرنا۔ علی: میں حصہ لینا، شریک ہونا، کو تن دہی سے کرنا، میں کلیتہً لگ جانا، کو سرگرمی سے کرتے رہنا۔ دَاْب جمع اَدْاُب: عادت۔ دَاَب و دَاْب و دُؤُوب: استقلال، ثابت قدمی، بے حد محنت، انتھک ہونا، تن دہی، مشقت، شوق، سرگرمی۔ دَؤُوب: ان تھک، ثابت قدم، مستقل مزاج، متواتر، پے در پے، اَدْاَب: زیادہ ثابت قدم، زیادہ محنتی۔

○ دادۃ: آتون، آتو، آتوجی، گورنس، آیا، دایہ، کھلائی۔

داث: دَاَثَ- دَاْثاً: بوجھل ہونا- الثوبَ: کپڑے کا میلا ہونا۔ الثوبَ: کپڑے کو میلا کرنا۔ الدِئث: سخت کینہ۔ الدَاثاء جمع دَآثٍ: چھوکری، لونڈی ابنُ دَاْثَاء: احمق۔

دادا: دَاْدَاَ دَاْدَاۃً و دِئدَاءً - بہت تیز دوڑنا۔ دَاْدَاَ دَاْدَاۃً و دِئدَاءً فی اِثْرِہ: کھوج لگانے کے لئے کسی کے پیچھے جانا۔

۲۔ دَاْدَاَ دَاْدَاۃً و دِئدَاءً الشیءَ: کو ڈھانپنا۔

۳۔ دَاْدَاَ۔ دَاْدَاَۃً و دِئدَاءً الشیءَ: کو حرکت دینا، سکون میں لانا (ضد)۔ تَدَاْدَاَ: حرکت کرنا، ٹھہر جانا (ضد)

۴۔ تَدَاْدَاَ عن فرسہ: گھوڑے سے گر جانا۔ الحجرُ: پتھر کا لڑھکنا

۵۔ دَاْدَاَ دَاْدَاَۃً و دِئدَاءً القومُ: لوگوں کا ہجوم کرنا، بھیڑ کرنا۔ تَدَاْدَاَ القومُ: الوگوں کا ہجوم کرنا، بھیڑ کرنا۔

۶۔ تَدَاْدَاَ عنہ: سے مائل ہونا، جھکنا۔ فی مشیہ: چال میں لڑکھڑانا۔

۷۔ الدَاْدَاْ و الدَاْدَاء و الدَاْدَاءۃ جمع دَآدِیء من اللیالی: سخت اندھیری رات۔

دار: - الدَارَ صِینیِ (ن): دارچینی۔

داص: دَاَصَ- دَاْصاً: اترانا۔ - البعیرُ: اونٹ کا فربہ ہونا، پر گوشت ہونا۔ الدَّاَص: فربہی، پر گوشت ہونا۔

داظ: دَاَظَ- دَاْظاً الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ - الرجلَ: پیٹ بھرے کو زبردستی کھلانا، غضبناک کرنا، کا گلا گھونٹنا۔ القرحۃَ: زخم کو دبا کر نچوڑنا۔ - دَاْظاً: فربہ ہونا، موٹا ہونا۔

○ داغ جمع داغات: (ڈھور ڈنگر وغیرہ پر لگایا ہوا) داغ، نشان

دال: ۱۔ دَاَلَ- دَاْلاً و دَاَلاً و دَاَلَی: سست چال سے چلنا۔ دَاءَلَ مُدَاءَلَۃً: سے تیز رفتاری میں مقابلہ کرنا۔

۲۔ دَاَلَ- دَاْلاً و دَاَلانَاً: کو دھوکا دینا دَاءَلَ مُدَاءَلَۃً: کو دھوکا دینا۔ - الدَاَل و الدِئِل و الدُؤُل و الدَاَلان (ح): گیدڑ، بھیڑیا، نیولے سے مشابہ ایک جانور۔ الدُؤَالۃ: لومڑی کا عَلَم جنس، اسم معرفۃ۔

۳۔ الدُؤْلُول جمع دَآلِیل: مصیبت کہا جاتا ہے: وقع القومُ فی دُؤْلُول: قوم ایک مصیبت و پریشانی میں پڑ گئی۔

○ دال: حرف د کا نام۔

○ دالِیا: دالیا (بڑے شوخ رنگ کے پھولوں کا پودا)

دام: دَاَمَ- دَاْماً الحائِطَ: دیوار کو سہارا دینا۔ - الرجلَ: پر کود کر سوار ہو جانا۔ تَدَاَمَہٗ الماءُ: کو پانی کا ڈھانپ لینا۔ تَدَاءَمَتْ علیہ الھمومُ او لأمورُ: پر غموں یا کاموں کا ہجوم کرنا۔ الدَامُ: ہر ڈھانپنے والی چیز۔ الدَاْماء: سمندر۔

○ دامَا - مہرہ بازی، ڈرافس۔ لوحۃ الداماء۔ شطرنج کی بساط۔

○ دامجانۃ: دیکھئے دمجانۃ

○ دانتیلا: جھالر، کلابتون۔

دانَق: دانَق و دانِق جمع دَوَانِق: ایک قدیم سکہ (۱/۴ درہم) چھوٹا سکہ۔ ایک پیمانہ۔

○ دانمارك: دَنمارك (Denmark) (ملک کا نام) دانُمارِکی ڈنمارک کا باشندہ، ڈنمارک کی زبان

○ الدانوب: دریائے ڈنیوب (The Danube)

دای: دَاَیَ- دَاْواً و دَاْیاً الذئبُ للصید: بھیڑیے کا شکار کو دھوکا دینا، فریب میں لانا۔ الدَای جمع دَاَیات: سینے کی پسلیوں کی ملنے کی جگہ۔ ابن دَاْیَۃَ (ح): کوّا۔ الدَایَۃ جمع دایات: دائی (فارسی لفظ)۔

دبّ: ۱۔ دَبَّ- دِبّاً و دَبِیباً السقم فی الجسم او البلی فی الثوب: بیماری کا جسم میں اور بوسیدگی کا کپڑے میں سرایت کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ دَبَّتْ

عقاربُہ اس کی چغلخوریاں اور ریشہ دوانیاں چل پڑیں۔ ــ الجَدْوَلُ نہر کا بہنا۔ اَدَبَّ اِلی اَرْضِہِ جَدْوَلاً: اپنی زمین کی طرف نہر بہانا۔ اَدَبَّ البلادَ: اس نے ملک کو انصاف سے بھر دیا۔ هو يُدِبُّ علينا عقاربَهُ و يحرّش علينا اَقاربَهُ: وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو ہمارے خلاف بھڑکاتا ہے۔ المَدَبّ جاری ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ مَدَبُّ السَّيل و مَدَبُّ النمل سیلاب کے بہنے کی جگہ، چیونٹیوں کے رینگنے کی جگہ۔ الدَبوُب و الدَّيْبُوب: چغل خور

۲۔ دَبَّ دَبّاً و دَبِيْباً سانپ کی طرح رینگنا یا ہاتھوں پاؤں پر بچہ کی طرح گھسٹنا کہتے ہیں۔ هو اكذب مَن دَبَّ و درج: وہ زندوں اور مردوں سے زیادہ جھوٹا ہے۔ اَدَبَّ الصبيّ بچہ کو ہاتھوں پیروں پر چلانا۔ الدُبّ جمع ادباب و دِبَبَة مؤنث دُبَّةَ (ح)۔ ریچھ۔ کہا جاتا ہے: رکب دُبَّ فلان او دبَّة فلان: اس نے فلاں شخص کا طریقہ اختیار کیا۔ الدُبِّيّ: (کہا جاتا ہے): ليس في الدار دُبِّيّ او دِبِّيّ: گھر میں کوئی نہیں۔ یہ صرف نفی میں کہا جاتا ہے۔) اللبَب (ح) گائے کا تازہ جنا ہوا بچہ۔ الدَبيب (مص) ہر رینگنے والا۔ الدَابَّة: الداب کا مؤنث مذکر و مؤنث ہے، اس میں ۃ وحدت کی ہے۔ جمع دَوَابّ تصغير الدُوَيْبَّة (ح): ہر رینگنے والا جانور (اغلب استعمال میں) ہر سواری اور بار برداری کا جانور۔ ارضٌ مَدَبَّة وہ علاقہ جہاں ریچھ بکثرت ہوں۔ الدَبُوب و الدَيْبُوب: ہر موٹی چیز۔ کہا جاتا ہے: ناقة دَبُوبٌ: گوشت کی فراوانی کی وجہ سے چل نہ سکنے لیکن رینگنے والی اونٹنی۔ الدبّاب مؤنث دَبَّابَة: تیز رینگنے والا، کمزور جو چلنے میں رینگے۔ الدَبَّابَة جمع دبّابات (اع) قلعہ کے محاصرہ میں استعمال ہونے والی ایک کل کچھ آدمی کل کے اندر گھس جاتے اور قلعہ کی فصیل کے پاس لیجا کر کھڑی کرنے پر فصیل میں سوراخ کر دیتے تھے، ٹینک، بکتر بند گاڑی۔

۳۔ الدُبُّ الأكبر و الدُبُّ الأصْغر: بنات النعش الكُبْرَى اور بنات النعش الصُغْرى: یا دُبّ اکبر و دُبّ اصغر: (قطب شمالی کے قریب ستاروں کے جھرمٹ جو چھوٹے بڑے ریچھ کہلاتے ہیں۔) الدُبّة جمع دِبَاب: تیل وغیرہ کا برتن، ذ۔ بط کی شکل کی شیشہ کی بوتل، بہت ریتلی جگہ۔ جمع دَبّ: چہرے کا رواں۔ الدَبَب: رواں، بالوں کی کثرت۔ الدُبيب (ح) چھوٹا کیڑا جو پانی میں کھیلتا رہتا ہے۔ الدَبُوب و الدَيْبُوب: گہرا غار۔ الدَبَّاء واحد دَبَّاءَة (ن) کدو۔ الدَبّان: رواں، بالوں کی کثرت۔ الادَبّ مؤنث دَبّاءَ: بہت بالوں والا (ح) بہت بالوں والا اونٹ۔

۴۔ دَبْدَبَ دَبْدَبَةً بچہ کا ہاتھوں پر چلنا (عام زبان میں)۔ الحافرُ على الارض: گھر یا ٹاپ کا زمین پر پڑ کر آواز دینا۔ الدَبْدَاب جمع دَبَادِيب: ڈھول۔

○ دَبَّ - دَبّاً و دَبِيباً: رینگنا، پیٹ کے بل چلنا (رینگنے والے جانور کا)، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا یا حرکت کرنا، ہاتھوں پاؤں پر چلنا۔ ـفي میں داخل ہونا، آنا ـفي نفسہ (احساس، شک کا) کسی کے دل میں چپ چاپ گھس آنا۔ في پر پھیلنا، پھیل جانا، کو بھر دینا، میں سرایت کرنا، رچ بس جانا، پر چڑھائی کرنا، چڑھ دوڑنا، حملہ آور ہونا، چھا جانا، یلغار کرنا۔ ترقی کرنا۔ في: (حالت، خیال، احساس کا) کسی میں فوقیت حاصل کرنا، (احساسات کا) کسی میں مسلسل آتا رہنا، یا تیزی سے آنا۔ دبّ فيه دبيبُ الحياة: طاقت حاصل کرنا، دبَّبَ ہ: کو تیز کرنا، کی نوک باریک بنانا، کو گاؤ دم بنانا۔ دُبّ جمع اَدْباب و دِبَبَة ریچھ۔ دُبِّيّ: خرسی، ریچھ کی طرح کا۔ دَبّہ: ریت کا ٹیلہ، مٹی کا ڈھیر یا تودہ۔ دبيب: رینگنا، پیٹ کے بل چلنا، سرایت کرنا، ریل پیل، ہجوم، امڈ آنا، امڈ کر آنا، بہہ آنا، (احساسات، زندگی طاقت وغیرہ کا) بہاؤ۔ رینگنے والا جانور۔ دبّاب رینگنے والا، پیٹ کے بل چلنے والا، زمین پر پھیلنے والا۔ دبّابة جمع دبّابات: ٹینک، بکتر بند گاڑی۔ مَدَبّ: من مدب النيلِ الى مصبّه: نشیبی نیل سے اس کے دہانہ تک۔ ـدابّة جمع دَوَابّ: جانور، چوپایہ، حیوان، وحشی انسان، سواری کا جانور، (گھوڑا، خچر، گدھا) دُوَيْبَة: چھوٹا یا ننھا جانور بہت ہی چھوٹا حیوان، کیڑا مکوڑا، کرم، حشرہ۔ مُدَبَّب نوکدار، نوکیلا، تیز، چبھتی ہوئی نوک کا، مخروطی، گاؤدم۔

دبا: دبَأ ـدبْأً: کو لاٹھی سے مارنا۔ الشیءُ ساکن ہونا۔ دبّأہٗ و علیہ: کو ڈھانپنا، چھپانا۔

دبج: ا۔ دَبَجَ ـدَبْجاً و دَبَّجَہٗ: کو منقوش کرنا، مزین کرنا، خوبصورت بنانا۔ ــ الطَيْلَسَانَ: کو ریشمی کپڑا لگا کر زینت دینا، آراستہ کرنا۔ الدِيْبَاج جمع دَبَابِج و دَبَابِيج واحد دِيباجَة: ریشم کے تانے بانے والا کپڑا۔ (فارسی لفظ) الدَبَّاج دیباج کپڑا بیچنے والا۔ المُدَبَّج ریشمی کپڑے سے مزین کیا ہوا۔

۲۔ الدِيباجَة: چہرہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ يصون ديباجتَهُ او يبذل دِيباجَتَهُ فلاں شخص اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ دیباجہ کی حفاظت عزت سے کنایہ ہے اور دیباجہ کو ترک کرنا دناءت سے کنایہ ہے۔ یعنی فلاں شخص اپنی آبرو ریزی کرتا ہے۔ دِيبَاجَةُ الكتاب: کتاب کا دیباچہ۔ الوجہ چہرے کی جلد کا حسن (فارسی لفظ) الدِيْبَاجتان: ہر دو رخسارے۔ المُدَبَّج: بدشکل و بدفطرت۔ (ح) ایک بدہیئت آبی پرندہ۔

○ دَبَّجَ ہ: کو آراستہ کرنا، سجانا کی تزئین کرنا، کی آرائش کرنا، کا سنگار کرنا، کی زیبائش کرنا، کو خوبصورت و خوشنما بنانا، کو تحریری لانا، کا ایک تحریری نوٹ یا ریکارڈ مرتب کرنا، کو اچھے اسلوب سے، پیش کرنا، وضع کرنا، ترکیب دینا، سنوارنا، دِيْبَاج جمع دَبَابِيج زربفت، کمخواب، دِيْبَاجة زربفت، کمخواب، دیباچہ نظم کے تمہیدی یا ابتدائی حصے یا سطریں، تمہید، مقدمہ، چہرہ، حسن اسلوب، شہرت مسلمہ حیثیت، وقار، تَدْبِيج: سجاوٹ، تزئین، آرائش، زیبائش، زینت، لکھنا، تحریر، انشاء مقالہ، مضمون، کتاب لکھنا، مُدَبَّجات تقریر کی زینتیں عمدہ صنائع۔

دبح: دَبَّحَ سر جھکانا، پیٹھ پھیلانا، ذلیل ہونا۔ في بيته: اپنے گھر میں جمے رہنا، پڑے رہنا

دبخ: دَبَّخَ: بمعنی دَبَّحَ

○ دَبْدَبَ: چلنا، قدم رکھنا، تھپ تھپانا، دَبْدَبَة قدموں کی آواز، چاپ، آہٹ، چھت پر بارش کی ہلکی ٹپ ٹپ کی آواز، کھٹ کھٹ، کھڑکھڑانے پٹ پٹ کرنے کی آواز، دروازہ بند کرنے کی آواز، پھڑپھڑانے کی آواز، پر جھاڑنے کی آواز۔ دَبْلُوبة جمع دَبَالِيب: نوک، سرا مخروطی سرا۔

دبر: دَبَرَ ـدَبْرًا و دُبُوراً النهارُ او الصيفُ دن یا گرمی کا ختم ہونا۔ الرجلُ مرنا، پیچھے پھرنا، بوڑھا ہونا۔ دَبْرًا الكتابَ کتاب کو نقل کرانا۔ بالشیء کو لے جانا۔ الحديث عَن فلان: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات نقل کرنا یا بیان کرنا۔ دَبَّرَ الحديثَ: غیر سے بات نقل کرنا۔ دَابَرَ مُدَابَرَةً و دِبَاراً: مرنا۔ اَدْبَرَ فلانٌ: مرنا۔ عنہ: سے پیچھے پھرنا۔ اَدْبَرَتِ الدنيا: اقبال مندی کا ختم ہونا۔ اَدْبَرَ الامرُ معاملہ ختم ہونا۔ اِسْتَدْبَرَہٗ: کو پیٹھ دینا۔ الدَبْر (مص): موت۔ الدِبْر: موت۔ دُبُرُ الصَلَاة نماز کا آخر۔ الدَابِر (فا): گذرا ہوا جسے کہتے ہیں۔ امس الدابر: گذشتہ کل یہ تاکید کے طور پر ہے۔ جس طرح کہتے ہیں: رايتُہٗ بعيني میں نے اسے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ الدَابِرَة ج دَوَابِر: دابر کا مؤنث، شکست۔ الدَبْرَة:

لڑائی میں شکست۔ یہ ادبار کا اسم ہے۔ الدَّبَار: ہلاکت۔ الدِّبار: شکستیں، جنگیں۔ الدَّبَرِیّ: آخری وقت میں نماز۔ الدَّبری: ایسے وقت میں آنے والی چیز جب اس کی ضرورت نہ رہے۔ کہا جاتا ہے۔ شَرُّ الرأيِ الدَّبَرِيُّ: بری رائے وہ ہے جو بعد از وقت سوجھے۔ جاءَ دَبَرِیًّا: وہ آخر میں آیا۔

۲۔ دَبَرَ ـُـ دَبْرًا ہٗ: کے پیچھے کے بعد آنا۔ السہمُ الھدفَ: تیر کا نشانہ سے ہٹ کر گرنا۔ تیر کا نشانہ سے آگے چلا جانا اور اس کے پیچھے گرنا۔ اَدْبَرَہٗ: کو اپنے پیچھے کرنا۔ اِسْتَدْبَرَہٗ: کا پیچھا کرنا، کھوج لگانا۔ الدُّبُر جمع اَدْبار من کل شیء: ہر چیز کا پچھلا حصہ۔ الدُّبُر جمع ادبار من کل شیء ہر چیز کا پچھلا حصہ۔ ولاَدُبار: آخر۔ کہا جاتا ہے: جاءَ دُبُرَ الشهر و في دُبُرِه و على دُبُرِه و اَدْبارَ الشهر و في اَدْبارِه: وہ مہینہ کے آخر میں آیا۔ دُبُرُ البيت: مکان کا کونہ، پچھلا حصہ۔ الدُّبُر: کسی چیز کے پیچھے۔ آپ کہتے ہیں۔ جعل کلامی دُبُرَ اُذُنَیہ اس نے میری بات سے غفلت برتی اور اس پر توجہ نہیں دی۔ الدّابِرُ: تابع، ہر چیز کا آخر، جوئے میں ناکامیاب تیر، آخری تیر۔ کہا جاتا ہے۔ مابقي في الكنانة غير الدابر: ترکش میں سوائے آخری تیر کے کچھ نہیں بچا۔ الدّابِرَۃُ: انسان کی کونچیں، کھر کا پچھلا حصہ۔ دابِرَۃُ الطير: پرندے کے پاؤں کا پچھلا خار۔ الدِّبْرُ: ضد قبل۔ کہا جاتا ہے: لیس لھذا الامر قِبْلَةٌ ولا دِبْرَةٌ: اس کی وجہ کا پتہ نہیں لگتا۔ الدَّبِیر من الرجل: کے پیچھے کہا جاتا ہے۔ ھو لا یعرف قبیلَه من دَبیرِه وہ آگے پیچھے کی تمیز نہیں رکھتا۔ یعنی پکا جاہل ہے۔ الدَّبَران (فلک) چاند کی ایک منزل جو برج ثور کے پانچ ستاروں پر مشتمل ہے۔ المُدابِر: ناکامیاب تیر کا مالک۔

۳۔ دَبَرَ ـُـ دَبْرًا و دُبُورًا الريحُ: ہوا پچھوائی رخ پر چلنا۔ دُبِرَ: کو پچھوائی ہوا لگنا۔ اَدْبَرَ فلانٌ: پچھوائی ہوا میں داخل ہونا۔ الدَّبُور پچھوائی ہوا۔ اس کے مقابل صبا ہے جو پوربی ہوا ہے۔

۴۔ دَبِرَ ـَـ دَبَرًا البعیرُ: اونٹ کی پیٹھ میں کجاوہ کی وجہ سے زخم ہونا۔ صفت: دَبِرٌ ... رَہُ القتبُ: کی پیٹھ کو کجاوہ کا زخمی کر دینا۔ البعیرُ بمعنی: دَبِرَ البعیرُ۔ الدَّبِر: زخمی پیٹھ والا جانور، پیٹھ لگا جانور۔ الدَّبَرۃ جمع دَبَر و اَدْبار: جانور کا زخم جو کجاوے وغیرہ سے لگے۔

۵۔ دَبَّرَ الامرَ: کسی معاملہ پر سوچ بچار کرنا، اس کے نتیجے پر غور کرنا، اس پر توجہ کرنا اور اس کا انتظام کرنا۔ علی ھلاکہ: کی ہلاکت کے لئے حیلہ سازی اور کوشش کرنا۔ تَدَبَّرَ الامرَ: معاملہ کے نتائج پر غور وفکر کرنا۔ اِسْتَدْبَرَ الامرَ: کا خلاف امید نتیجہ برآمد ہونا۔ الدَّبْرَۃ جمع دِبار: نتیجہ۔ عاقبت۔

۶۔ دابَرَ مُدابَرَۃً و دِبارًا ہٗ: سے دشمنی کرنا۔ تَدابَرَ القومُ: آپس میں دشمنی رکھنا، اختلاف رکھنا اور ایک دوسرے سے تعلقات توڑ لینا۔

۷۔ الدَّبْر واحد دَبْرَۃ جمع اَدْبُر و دُبُور شہد کی مکھیوں یا بھڑوں کا انبوہ، بہت مال، پہاڑ، سمندر میں جزیرہ نما قطعۂ زمین جس پر جوار بھاٹا ہوتا ہو۔ الدِّبْر بہت مال یہ مفرد وجمع کے لئے یکساں مستعمل ہے۔ مثلاً کہتے ہیں۔ مالٌ دِبْرٌ و اموالٌ دِبْرٌ: ایک بہت مال یا کئی بہت مال۔ الدّابِر اصل۔ کہتے ہیں۔ قطع اللهُ دابِرَھم اللہ تعالیٰ ان کی بیخ کنی کرے۔ الدّابِرَۃ جمع دَوابِر: نحوست۔ الدَّبْرَۃ جمع دِبار: قابل کاشت قطعہ اراضی۔ الدِّبار: کھیتوں کی نالیاں۔ الدَّبِیر: گناہ، کہا جاتا ہے: عرف قبیلَه من دبیره: اس نے طاعت اور معصیت میں تمیز کر لی۔ الدَّبُّور جمع دَبابیر (ح): بھڑ، خارجی مظہر، شکل۔ المُدابَر: مقابل شریف والدین والا، نجیب الطرفین۔ المَدْبُور: زخمی۔ بہت مال والا۔ الدَّبُّورَۃ: پتھر تراشتے وقت ان کو برابر کرنے والا آلہ۔ فصیح لفظ: "الصاقُور" ہے۔

◯ دَبَرَ ـُـ دُبُورًا: پیٹھ موڑنا، (وقت کا) گزرنا۔ دَبَّرَہٗ: کے انتظامات کرنا، کے لئے منصوبے بنانا، کوئی چیز تیار کرنا، کا پیشگی بندوبست کرنا، کو منظم کرنا، کی تنظیم کرنا، کا خاکہ، نقشہ یا ڈیزائن تیار کرنا، کا نقشہ بنانا، کو بنانا، تشکیل کرنا، وضع کرنا کی تدبیر کرنا، کو ایجاد کرنا، کی اختراع کرنا، میں ہم آہنگی پیدا کرنا، کو ترتیب دینا، کا انتظام کرنا، بندوبست کرنا، اہتمام کرنا، (جھگڑا) چکانا، فیصل کرنا (اختلافات) ختم کرنا، کو ٹھیک ٹھیک کرنا، کا باعث بننا، (منصوبہ وغیرہ) پکانا، (چال) کی ترکیب ڈھونڈنا، کی تدبیر نکالنا یا کرنا، کا جتن کرنا، کو آہستہ آہستہ بنانا، کا نظم ونسق کرنا، کو چلانا، ضبط میں رکھنا، (کوئی طرز عمل) اختیار کرنا، کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، کو کرنا یا کر سکنا، کو ہوشیاری سے بنانا یا کا ہوشیاری سے بندوبست کرنا، کو (خاص سمت) چلانا، کو صف بستہ کرنا، کی صف آرائی کرنا، کو نظام کے تحت لانا، باقاعدہ بنانا کا، نگران ہونا، میں کفایت سے کام لینا، کو اچھی طرح سرانجام دینا، دَبَّرَ خِطَّةً: منصوبہ تخلیق کرنا یا اختراع کرنا۔ دَبَّرَ الشُّؤُونَ: کاروبار کا سلسلہ چلانا، کی نگرانی کرنا۔ اَدْبَرَ عن / علی: کی طرف پیٹھ کرنا، موڑنا، ـــ: فرار ہو جانا، بھاگ جانا، بچ جانا، ادھر ادھر ہٹنا، چپکے سے نکل جانا، کھسک جانا، تَدَبَّرَ: تیار ہونا، منصوبہ بننا، منظم ہونا، بندوبست ہونا۔ ہ / فی: پر غور وفکر کرنا، کے بارے میں گہری سوچ میں ہونا، دھیان میں ہونا، کو غور سے دیکھنا، کی اہمیت یا قدر و قیمت کا اندازہ کرنا، (بات) تولنا، پر غور کرنا، کو سوچنا۔ ـــ فی: کو احتیاط سے ہاتھوں میں لینا یا سے احتیاط کے ساتھ نبٹنا۔ تَدابَرَ: مقابل اطراف میں منہ پھیرنا، پشت سے پشت ملا کر کھڑا ہونا، مخالف ہونا، متضاد ہونا، مقابل ہونا، بالمقابل ہونا، الٹ یا الٹا ہونا، بے میل، بے جوڑ، الٹ، یا متضاد ہونا۔ اِسْتَدْبَرَہٗ: کی طرف پیٹھ کرنا، موڑنا۔ دُبْر و دُبُر جمع اَدْبار: پڑا، پٹھا، سرین، چوتڑ، پچھلا حصہ، چت، پچھا، عقب، آخری حصہ، آخر، دم، پونچھ، دنبالہ، مِن دبر: پیچھے، عقب میں، پشت پر، پیچھے سے، عقب سے، وَلّى دُبُرَہٗ: پیٹھ موڑنا، بھاگ جانا، راہ فرار اختیار کرنا، دَبَرِی: پیچھے پیچھے گھسٹتا ہوا، بعد از وقت، دیر سے پہنچنے والا، دَبْرَہٗ (تقدیر کا) پلٹا۔ دَبُور: پچھوا۔ دَبُّور جمع دَبابِیر: بھڑ، تَدْبِیر جمع تدبیرات: منصوبہ سازی، تنظیم، ہدایت، انتظام، بندوبست، دیکھ بھال، ٹھکانے لگانا، قاعدہ، باقاعدہ بنانا، بچت، کفایت، کفایت سے کام لینا، (جمع تدابیر): قدم، اقدام، کارروائی، حرکت، چال۔ تدبیر المَنْزِل و تدبیرٌ مَنْزِلِیٌّ: گھر کا انتظام، گھر بار کا بندوبست۔ قامَ بالتدابیر اللازمة و اِتَّخَذَ التدابیر اللازمة: ضروری اقدامات کرنا، اِدْبار: پسپائی، فرار۔ تَدَبُّر فی: پر غور وفکر، کے متعلق سوچ بچار، غور یا تامل، تَدابُر: تفاوت، فرق، نمایاں فرق، موازنہ، محاکمہ، عدم مشابہت، دابِر: گذرا ہوا (وقت)، آخری، انتہائی یا دور ترین حد، انتہاء، جڑ، اصل، سرا، کنارا، قَطَعَ دابِرَ الشیء: کو جڑ سے اکھیڑنا، کا استیصال کرنا، کا قلع قمع کرنا، کو یکسر کچل دینا، بالکل دبا دینا۔ بالامس الدابر: گذشتہ روز، گذشتہ کل، ذھب کَأَمْسِ الدّابِرِ: ہوا میں تحلیل ہو جانا، کوئی آثار چھوڑے بغیر غائب ہو جانا، (فی الواقع گذشتہ کل کی طرح)۔ مُدَبِّر: منیجر، ڈائریکٹر، حاکم، مرتب، رہنما، سرگروہ، سرغنہ۔ مُدَبِّرُ المکائد: منصوبہ باز، سازشی، مُدْبِر: مُدْبِرًا و مُقْبِلاً: پیچھے سے اور آگے سے۔ دُبارۃ (دُوبارۃ) بنڈل وغیرہ باندھنے کی ڈوری، رسی، سُتلی، طناب، دھاگا۔

دبس ا۔ دَبَسَ الشيءَ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ الشي...

چیز کا چھپنا، پوشیدہ ہونا۔

۲۔ دَبَسَ العنبُ: انگور کا بہت میٹھا ہونا۔ العصیرُ المَغلیّ: جوش کھا کر رس کا گاڑھا ہونا۔ الرجلُ العصیرَ: رس پکا کر گاڑھا کرنا۔ اَدْبَسَتِ الارضُ: زمین کا سبزہ پھوٹنا۔ اِدْبَسَّ اِدْبِسَاسًا الفرسُ: گھوڑے کا سرخی مائل بھورے رنگ والا ہونا۔ صفت: اَدْبَس۔ الدَّبْس: ہر سیاہ شے۔ الدِّبْس: پکایا ہوا گاڑھا شیرہ۔ الدِّبس: کھجور وغیرہ کا شیرہ، شہد۔ الدُّبْسَة: سرخی مائل بھورا رنگ۔ الدَّبّاس: شیرہ بنانے والا، شیرہ فروش۔

۳۔ الدِّبْس: بہت تعداد لوگوں وغیرہ کی۔ کہا جاتا ہے: مالٌ دِبْسٌ: بہت مال۔ الدَّبُّوس جمع دَبَابِیس: گرز (فارسی لفظ)۔ الدَّبُّوس جمع دَبَابِیس: گرز، پن، سیفٹی پن۔

○ دِبْس سیرپ (Sicup) راب، شیرہ (خصوصاً انگوروں کا)۔ دَبُّوسٌ انکلیسی: سیفٹی پن۔

دبش: ۱۔ دَبَشَ دَبْشًا الشیءَ: کا چھلکا اتارنا۔ الطعامَ: کھانا کھانا۔ کہا جاتا ہے دُبِشَتِ الارضُ دَبْشًا: زمین کا تمام سبزہ چر لیا گیا۔ سیلٌ دُبَاش: تباہ کن سیلاب۔ مکانٌ مَدْبُوش: وہ جگہ جس کی سبزی ٹڈیاں چٹ کر گئی ہوں۔

۲۔ الدَّبْش (واحد دَبْشَة): پتھریاں اور ان کے ریزے (عام زبان میں) الدَّبَش: گھر کا سامان، ردی سامان۔ الدَّبْشَة: دشوار گزار جنگل (عام زبان میں)۔

○ دَبَش: ناکارہ سامان، ملبا، کوڑا کرکٹ، خس وخاشاک، آخور، نکمی یا ردی چیز، الا بلا۔ دَبْش: روڑے کنکر، ٹوٹے ہوئے اینٹ پتھر۔

دبغ: دَبَغَ دَبْغًا و دِبَاغًا و دِبَاغَةً الجلدَ: چمڑے کو رنگ کرنا، نرم کرنا اور اس کی رطوبت اور عفونت دور کرنا۔ اِنْدَبَغَ: چمڑے کا نرم اور رطوبت اور عفونت سے پاک ہونا، رنگا ہونا۔ الدِّبْغ و الدِّبْغَة و الدِّبَاغ و الدِّبَاغَة: چمڑہ رنگنے کا مسالہ۔ جلدٌ دَبِیغ: رنگا ہوا چمڑا۔ الدِّبَاغَة: چمڑہ رنگنے کا پیشہ۔ الدَّبَّاغ: چمڑے رنگنے والا۔ المَدْبَغَة و المَدْبُغَة: چمڑے رنگنے کی جگہ، رنگ میں پڑے ہوئے چمڑے۔

○ دَبَّغَ دَبْغًا ہ: چمڑہ کمانا، کھال پکانا، چمڑے کی دباغت کرنا۔ دِبَاغَة: فن دباغت، چمڑا کمانا۔ دَبّاغ: چمڑا کمانے والا۔ مَدْبَغَة جمع مَدَابِغ: چمڑے کی دباغت کا کارخانہ۔

دبق: دَبَقَ دَبْقًا الصائدُ الطیرَ: لاسہ سے پرندہ کا شکار کرنا۔ دَبِقَ دَبَقًا بہ: سے چمٹا رہنا۔ دَبَّقَ ہ: کو لاسہ سے شکار کرنا۔ اَدْبَقَ ہ: کو چپکانا، چمٹانا۔ تَدَبَّقَ الطیرُ: پرندہ کا لاسہ سے شکار ہونا۔ الشیءُ: لیس دار ہونا۔ الدِّبْق و الدَّابُوق و الدَّبُوقَاء: پرندہ کو شکار کرنے کا لاسا۔ الدِّبق (ن): لائم درخت جس کا پھل پرندوں کا لاسا بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

○ دَبِقَ دَبَقًا: سے چپکنا، چسپاں ہونا، سے لگا، لپٹا رہنا، سے چمٹنا، چٹ جانا۔ دَبَّقَ ہ: پرندہ کو لاسا سے پکڑنا۔ دِبْق: لاسا۔ دَبِق: چپچپا، چپکنے والا، لیس دار، لاسا لگا ہوا۔

دبک: دَبَکَ دَبْکًا: زور سے زمین پر پاؤں مارنا جس سے کرخت آواز پیدا ہوتی ہے۔ (عام زبان میں) ہ علی الارض: کو زور سے زمین پر پٹخنا، پچھاڑنا۔ الوعاءَ: برتن کو پورا پورا بھرنا۔ دَبَّکَ تَدْبِیکًا: زمین پر زور سے پاؤں وغیرہ مارنا اور کرخت آواز نکالنا۔ الدَّبْکَة: مشہور رقص جس میں ناچنے والے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر تال کے ساتھ گاتے ہیں۔

○ دَبْکَہ: اجتماعی رقص (گانے کے ساتھ)

دبل: ۱۔ دَبَلَ دَبْلًا و دُبُولًا الشیءَ: کی اصلاح و درستی کرنا۔ الارضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ الدَّبْل جمع دُبُول: پانی کی نہر۔ الدُّبَال: کھاد۔

۲۔ دَبَلَ دَبْلًا: فلانًا الدَّبُولُ: اس پر آفتیں ٹوٹ پڑیں۔ دَبَلَتْہُ الدبولُ: اس کی ماں نے اسے گم کر دیا۔ الدَّبْل جمع دُبُول: طاعون، مصیبت، اولاد کی موت۔ الدَّبْلَة و الدُّبَیْلَة: مصیبت۔ الدَّبُول: ہلاکت و مصیبت، وہ عورت جس کی اولاد مر گئی ہو۔

۳۔ دَبَلَ ہ بالعصا: کو لاٹھی سے لگاتار مارنا۔

۴۔ دَبَلَ دَبْلًا و دَبَّلَ اللقمةَ: بڑا لقمہ لینا۔ الشیءَ: کو انگلیوں سے اکٹھا کرنا جیسے لقمہ کیا جاتا ہے۔ الدُّبْلَة جمع دُبَل و دُبَل: بڑا لقمہ، ہر چیز کا ٹکڑا۔

۵۔ دَبِلَ دَبَلًا: موٹا ہونا، فربہ ہونا۔

۶۔ الدُّبْلَة جمع دُبَل و دُبَل: کلہاڑی کا سوراخ۔ الدَّبْلَة و الدُّبَیْلَة (طب): پیٹ کی بیماری یا پیٹ کا پھوڑا یا گلٹی۔ الدَّوْبَل (ح): پست قد گدھا، نر سور۔

۷۔ الدِّبْلُومَاسِی: کسی حکومت کا سفیر، فن سفارت کا ماہر، سفارتی (یونانی لفظ) السلک الدبلوماسی: تمام غیر ملکی سفیر Diplomatic corps الدبلوماسیة: سفارت، فن سفارت میں مہارت، حکمت عملی، موقعہ شناسی۔

○ دِبْلَة جمع دُبَل: چھلا، انگوٹھی، انگشتری۔

○ دبلوم و دبلومہ جمع دبلومات: ڈپلوما، سند فضیلت، سند، ڈگری۔

دبی: دَبِیَتِ الارضُ: چھوٹی ٹڈیوں کا زمین کے پودوں کو کھا جانا۔ صفت مَدْبِیَة و مَدْبُوَّة۔ اَدْبَتِ الارضُ: زمین پر چھوٹی ٹڈیوں کا بکثرت ہونا۔ الدَّبَی واحد دَبَاة (ح): چھوٹی ٹڈی، چیونٹی (اسم جنس)۔

دث: دَثَّ دَثًّا الصیادُ بہ: شکاری کا کسی چیز سے شکار کرنا، کسی چیز کو پھینکنا۔ ہ: کو پتھر مارنا، کو چوٹ مار کر تکلیف پہنچانا، ہٹانا۔ دَثَّتِ السماءُ: آسمان کا ہلکی بارش برسانا۔ الدَّثّ و الدَّثَّة و الدِّثَاث: ہلکی بارش۔ الدَّثَّة: ہلکا کام۔ الدَّثُوث: ہٹ جانے والا۔

دثر: ۱۔ دَثَرَ دُثُورًا الرسمُ: نشان کا محو ہونا، مٹنا۔ صفت دَاثِر جمع دَوَاثِر۔ تَدَاثَرَ اسمُہ: نشان مٹنا۔ اِنْدَثَرَ: محو ہونا، مٹنا۔

۲۔ دَثَرَ دُثُورًا السیفُ: تلوار پر زنگ چڑھ جانا، لگنا۔ الرجلُ: انسان پر بڑھاپے کے آثار کا آشکار ہونا۔ الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا۔ تَدَثَّرَ فرسَہُ: گھوڑے پر کود کر سوار ہونا۔ الدَّثَر: میل کچیل۔

۳۔ دَثَرَ دُثُورًا الشجرُ: درخت کا پتے لانا، درخت پہ پتے لگنا۔ دَثَّرَہُ: کو چادر سے ڈھانپنا۔ تَدَثَّرَ و اِدَّثَرَ بالثوب: کپڑا اوڑھنا، کپڑے میں لپٹنا۔ صفت: مُتَدَثِّر و مُدَّثِّر (اس کی اصل مُتَدَثِّر ہے۔ ت د میں مدغم ہوگئی ہے)۔ الدِّثار: بدن سے ملے ہوئے کپڑے کے اوپر کا گرم کپڑا۔ وہ کپڑا جس کو سونے والا اوڑھ کر لیٹے۔

۴۔ دَثَرَہُ: کو ہلاک کرنا۔ الداثِر: ہلاک ہونے والا۔

۵۔ اِدَّثَرَ: بہت مال جمع کرنا۔ الدَّثْر: بہت مال۔ کہا جاتا ہے مالٌ دَثْرٌ و مالان دَثْرٌ و اموالٌ دَثْرٌ یعنی دَثْر واحد، تثنیہ اور جمع سب کے لئے آتا ہے۔ کبھی جمع بھی لائی جاتی اور دُثُور کہا جاتا ہے۔ الدَّثَر: بہت۔ کہا جاتا ہے عسکرٌ دَثْرٌ: لشکر جرار۔ الدَّثُور: مال کا انتظام کرنے والا۔

۶۔ الدَّثُور و الدَّثَارِیّ: سست، کاہل، بہت سونے والا۔ الأَدْثَر: غافل

○ دَثَرَ دُثُورًا: بھلایا جانا، نگاہ تغافل کا شکار ہونا، بالکل بھولا ہوا ہونا، متروک ہو جانا، غیر مروجہ ہونا، و قانونی ہونا، بہت پرانی وضع کا ہونا، ناپید ہو جانا، مٹنا، مٹ جانا، کا نام و نشان نہ رہنا، حرف غلط کی طرح مٹنا (ہوا سے قدموں کے نشان، کھوج کا)۔ دَثَّرَہُ: کو ڈھانپنا، ڈھانکنا، لپیٹنا۔ ہ: کو تباہ و برباد کرنا، نیست و نابود کرنا۔ تَدَثَّرَ فی: میں لپٹنا، سے ڈھک جانا، کو اوڑھنا۔ اِنْدَثَرَ: کا نام و نشان مٹنا یا مٹ جانا۔ محو ہونا، پھٹا ہونا، بھولا بسرا

ہونا، نگاہ تغافل کا شکار ہونا، متروک ہونا، غیر مروج ہونا، کا رواج نہ رہنا۔ اِدَّثَرَ ب: میں لپٹنا، کو اوڑھنا۔ دِثار: کمبل، چادر۔ مَدْثُور: گزرا ہوا، بہت پرانا، قدیم (زمانہ، وقت)۔

دج: ا۔ دَجَّ۔ دَجِیجًا و دَجَجَانًا القومُ: آہستہ چلنا۔ الداجّ جمع داجُّون و داجَّة: الحاج کی طرح یہ بھی مفرد و جمع میں یکساں مستعمل ہے۔ اس کا اطلاق خادموں اور بوجھ اٹھانے والوں پر ہوتا ہے۔

۲۔ دَجَّ۔ دَجِیجًا و دَجَجَانًا البیتُ: گھر کی چھت کا ٹپکنا۔

۳۔ دَجَّ۔ دَجًّا السترَ: پردہ چھوڑنا، لٹکانا۔ دَجَّجَتِ السماءُ: آسمان کا ابر آلود ہونا۔ ۔ہٗ: کو ہتھیار بند کرنا۔ تَدَجَّجَ: مسلح ہونا، پورا ہتھیار بند ہونا۔ کہا جاتا ہے: ۔ فی شِکّتہ وہ اچھی طرح ہتھیار پوش ہو گیا۔ الدُّجَّة: سخت تاریکی۔ الدُّجُج سخت تاریکی، سیاہ پہاڑ، کالے پہاڑ۔ المُدَجَّج و المُدَجِّج: پوری طرح مسلح، کامل ہتھیار پہنے ہوئے۔ (ح) سیہی، (اس کے پروں کی اسلحہ سے تشبیہ کی وجہ سے)۔ اَسْوَد دُجَاجِیٌّ: کالا سیاہ۔ الدَّجُوجِي و الدَّیجُوج جمع دَیَاجِیج: تاریک رات۔

۴۔ الدجاج: دال کی تثلیث کے ساتھ، البتہ دال کی فتح افضل ہے واحد دَجَاجة جمع دُجُج: مرغی (پالتو یا جنگلی)۔ ـــ الهندی: ایک بڑا پرندہ جسے دجاج الحبش اور الدجاج الرومی بھی کہتے ہیں۔ الدَّجَاجة: عیال، دھاگے کی پیچک یا اس کا گنا۔ الدُّجَاجِي: مرغیاں بیچنے والا۔

۵۔ دَجْدَجَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔

○ دَجَّ دَجًّا و دَجِیجًا: آہستہ آہستہ چلنا۔ دَجَّجَہٗ بالسلاح: کو پوری طرح مسلح کرنا۔ دُجّ: ترغہ (ایک خوش الحان پرندہ) دُجَّة: سخت تاریکی، سخت اندھیرا۔ دَجَاج (اسم جنس) چوزے، پرندے، مرغی (مرغا یا مرغ) دَجَاجَة: مرغی، چوزہ۔ دَجَاجةُ الحبش: سرمئی مرغی۔ مُدَجَّجٌ بالسلاح: پوری طرح مسلح۔

دجر: دَجِرَ۔ دَجَرًا: حیران ہونا، مدہوش ہونا، صفت دَجِر و دَجْران جمع دَجْرَی و دُجَارَی۔ داجَرَ مُدَاجَرَةً: بھاگنا، فرار ہونا۔ الدِّجْران واحد دِجْرَانَة: بیل چرھانے کیلئے نصب شدہ لکڑی۔ الدَّیجُور جمع دَیَاجِیر و دَیَاجِر: تاریکی، اندھیرا (ہم کہا کرتے ہیں: النور و الدیجور: روشنی اور تاریکی) خاکستری رنگ کی سیاہی مائل مٹی۔

○ دَجِرَ۔ دَجَرًا: پریشان ہونا، مشکل میں پڑنا، سمجھ میں نہ آنا کہ کیا کرے یا کہے، گومگو کی حالت میں ہونا۔ دَیْجُور جمع دَیَاجِیر: تاریکی، اندھیرا، دھندلکا، اندھیرا، رات۔ دَیْجُورِیّ: تاریک، اندھیرا۔

دجل: ا۔ دَجَلَ۔ دَجْلاً: جھوٹ بولنا۔ ۔البعیرَ: اونٹ پر قطران لگانا۔ دَجَّلَ البعیرَ: اونٹ پر قطران لگانا۔ ۔الاناءَ: برتن پر سونے کا پانی چڑھانا گلٹ کرنا۔ ۔الشیءَ: کو ڈھانپنا۔ ۔الارضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ الدَّجَال: گوبر، کھاد۔ الدُّجَیل و الدُّجَالَة: قطران۔ دِجْلة: عراق کے دو بڑے دریاؤں میں سے ایک کا نام: لفظ کی بناء پر مونث، دریا ہونے کی وجہ سے مذکر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کبھی اس پر ال بھی داخل ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: الدِجْلة اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سیلاب آنے پر زمین کو ڈھاپ لیتا تھا۔ الدَّجَّال: سونے کا پانی۔ جمع دَجَّالُون و دَجَاجِلَة: بڑا جھوٹا، اسی سے ہے مسیح الدجّال: وہ بڑا جھوٹا شخص جو آخر زمانہ میں ظہور کرے گا۔ الدَّجَّالَة: زمین پر چھانے والا ایک بڑا گروہ۔

۲۔ دَجَلَ۔ دَجْلاً و دَجَّلَ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا، ٹھہرنا، مقیم ہونا۔

○ دَجَلَ۔ علی: کو دھوکا دینا، فریب دینا، سے دغا بازی کرنا، کو جل دینا، ٹھگ لینا۔ ـــ: ٹھگ ہونا، دھوکے باز ہونا، عیار ہونا، فریبی ہونا، جھوٹا مدعی ہونا، لپاٹیا ہونا، ڈھونگیا ہونا، عطائی یا نیم حکیم ہونا۔ دَجَّلَ ہٗ: پر کوٹ کرنا، پلستر کرنا، لیپنا، پر ملنا، پر سونے کا پانی چڑھانا، سونا چڑھانا، پر ملمع کرنا، کو سنہرا رنگنا۔ ـــ علی: کو دھوکا دینا، فریب دینا، کو اُلو بنانا، ٹھگنا۔ دَجْل: عیاری، حیلہ گری۔ دروغ بافی، دھوکا، دغا، مکر، فریب، جھوٹ، فریب دے کر لوٹنا۔ دَجَّال جمع دَجَّالُون و دَجَاجِلَة: دھوکے باز، فریبی، جعلساز، ٹھگ، چالباز، پاکھنڈی، بہروپیا، عطائی، نیم حکیم، ڈھونگ، ڈینگیا، جھوٹا مدعی (مونث دَجَّالة): دجال، دشمنِ حضرت مسیح۔ تَدْجِیل: فریب، چھل، مکر، عیاری، دغا بازی، حیلہ سازی، جھوٹ، ڈھونگیا پن، نیم حکیمی، عطائیت، عطائی پن، عطائی علاج۔

دجم: ا۔ دَجَمَ۔ دَجْمًا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الدُّجْم: عشق کی تکالیف و بے چینیاں۔ کہا جاتا ہے ۔ اخذته دُجْمُ العشق: اس کو عشق کی بیتابیوں نے گھیر لیا۔

۲۔ دَجِمَ۔ و دُجِمَ دَجْمًا: غمگین ہونا۔

۳۔ الدَّجْمُ من الشیءِ: کسی شے کی قسم۔ ۔غدیرٌ دَیْجَم: موجزن تالاب۔

دجن: ا۔ دَجَنَ۔ دَجْنًا و دُجُونًا الیومُ: دن کا ابر اور بارش والا ہونا۔ ۔اللیلُ رات کا تاریک ہونا صفت اَدْجَن مونث دَجْنَاء جمع دُجْن۔ اَدْجَنَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ۔ت السماءُ: آسمان کا مسلسل بارش برسانا۔ ۔المطرُ و الحُمّی: بارش یا بخار کا جاری رہنا۔ ۔القومُ: بارش میں داخل ہونا۔ اِدْجَوْجَنَ الیومُ: دن کا بارش والا ہونا۔ الدَّجْن جمع دُجُن و دِجَان و دُجُون و اَدْجَان: چھا جانے والا سیاہ بادل، بہت بارش۔ کہا جاتا ہے: یومُ دَجْنٍ و یومٌ دَجْنٌ: بہت بارش والا دن اسی طرح: لیلةُ دَجْنٍ و لیلةٌ دَجْنٌ: بہت بارش والی رات۔ الأدْجَن: تاریک۔ الدُّجْنَة جمع دُجَن و دُجُنَات: تاریکی۔ ۔فی اَلوانِ الابل: اونٹوں کے رنگوں میں بہت بری سیاہی۔ الدُّجُنَّة و الدَّجِنَّة و الدِّجِنَّة جمع دُجُنَّات: تاریکی، بارش برسانے والا سیاہ گھٹا ٹوپ بادل۔ کہا جاتا ہے: یومُ دُجُنَّةٍ و یومٌ دُجُنَّةٌ: بہت بارش والا دن اسی طرح کہا جاتا ہے۔ لیلةُ دُجُنَّةٍ و لیلةٌ دُجُنَّةٌ: تاریک رات۔ لیلةٌ مِدْجَان: تاریک رات۔ الداجِنَة و المُدْجِنَة من السحاب: بہت بارش برسانے والا بادل۔

۲۔ دَجَنَ۔ دُجُونًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ۔الحَمَامُ و غیرُہٗ: کبوتروں وغیرہ کا مانوس ہونا صفت: داجِن مونث داجِن و داجِنَة جمع دَوَاجِن کہا جاتا ہے: دَجَنوا فی لؤمِهم: وہ کمینگی کے عادی ہیں کہ اسے نہیں چھوڑتے۔

۳۔ داجَنَ مُدَاجَنَةً ہٗ: سے مداہنت کرنا، کو دھوکا دینا۔

○ دَجَنَ۔ دَجْنًا و دُجُونًا: (دن کا) دھندلا ہونا، سیاہی مائل ہونا، تاریک ہونا، گھٹا ٹوپ ہونا، تیز و تاریک ہونا۔ دُجُونًا: رہنا، ٹھہرنا، عادی ہونا، خوگر ہونا، پالتو ہو جانا، پالتو ہونا، مانوس ہونا۔ دَجَّنَ: سدھانا، مانوس کرنا، خوگر کرنا۔ ـــ ہٗ: جانور کو پالتو بنانا، مانوس کرنا، عادی کرنا۔ دَجَّنَہٗ لِخِدْمةِ فلان: کو کے لئے کام کرنے والا بنانا، کو کی خدمت والا بنانا۔ داجَنَ ہٗ: کی چاپلوسی کرنا، کی خوشامد کرنا، کی خود پسندی کو تقویت دینا، کو پھلانا، جھانسا دینا، کو سبز باغ دکھانا، کی دلداری کرنا، کو پھلانا، کو دھوکا دینا، کے ساتھ میٹھی میٹھی باتوں سے مطلب براری کرنا، کو فریب دینا، بہکانا، ناز نخروں سے رجھانا، کو راضی کرنا، کو خوش خلقی سے جیتنے یا ترغیب دینے کی کوشش کرنا۔ اَدْجَنَ: (دن کا) تاریک ہونا۔ دُجْنَة و دُجُنَّة: تاریکی، اندھیرا، تیرگی، ظلمت، دھندلا پن۔ اَدْجَن: تاریک۔ داجِن: پالتو، گھر سے،

مانوس کیا ہوا، عادی بنایا ہوا (جانور) تاریک، اندھیرا، تیرہ، بے نور۔ حیوانات داجنۃ گھریلو جانور۔ دَوَاجن مرغیاں، پالتو مرغ بطخیں وغیرہ۔

دجا: دَجَا ـُ دَجْوًا و دُجُوًّا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا صفت: دَاجٍ مؤنث دَاجِیَۃ۔ جیسے لیلۃ داجیۃ: تاریک رات۔ داجی مُداجاۃً ہٗ: سے ظاہرداری برتنا اور اس سے دشمنی چھپانا، کو میانہ روی سے روکنا۔ اَدْجی اِدْجَاءً و تَدَجّٰی تَدَجِّیًا و اِدْجَوْجَی اِدْجِیجاءً اللیلُ رات کا تاریک ہونا۔ ـــ البیتَ گھر پر پردہ لٹکانا۔ لیلٌ دَجِیٌّ تاریک رات۔ الدُّجْیَۃ جمع دُجًی تاریکی یا بادل کے ساتھ تاریکی۔ شکاری کے چھپنے کی جگہ۔ الدیاجی اندھیرے، تاریکیاں۔

۲۔ دَجَا ـُ دَجْوًا و دُجُوًّا الثوبُ کپڑے کا کشادہ ہونا۔ الدُّجہ جمع دُجَات و دُجًی قمیص کا بٹن۔ الداجی من العیش: آسودگی۔ نعمۃ داجیۃ: بھرپور نعمت۔

○ دَجَا ـُ تاریک ہونا۔ تیرہ ہونا، بے نور ہونا، دھندلا ہونا، سیاہی مائل ہونا۔ ـــ ہٗ: کو ماند کر دینا، ڈھکنا، کو پردے میں چھپانا، پر پردہ ڈالنا، کو چھپا لینا، (معاملہ) کو دبا دینا، پر چھپل جانا۔ داجاہ سے منافقت کرنا، اپنے آپ کو کسی کا دوست ظاہر کرنا، کو خوش آمد سے دام میں لانا، کی خوش آمد کرنا۔ دُجیٌّ تاریکی، دھندلا پن، دھندلکا، اندھیرا اجالا۔ دیاجی اللیل: رات کی تاریکی، رات کے اندھیرے۔ مُداجاۃ: منافقت، خوشامد، چاپلوسی، تملق۔ داجٍ تاریک

دحّ ا۔ دَحَّ ـَ دَحًّا الشیءَ فی الارض: کو زمین میں چھپانا، دبانا۔ الرجلَ کو گدی پکڑ کر دھکیلنا۔ البیتَ فی الثری: گھر کو کشادہ کرنا۔ الطعامُ بطنَہٗ کھانے کا پیٹ کو نیچے تک بھر دینا۔ اِنْدَحَّ اِنْدِحَاحًا بطنُہٗ: پیٹ کا فراخ ہونا۔

۲۔ الدَّحْدَح و الدَّحْدَحۃ و الدَّحداح و الدَّحْداحۃ والدُّحادِح والدُّحَیْدِحۃ پست قد، کوتاہ قد۔

○ تَدَحْدَحَ: جھومتے جھامتے چلنا۔ دَحْدَح و دَحْداح: ناٹا اور موٹا، پست، چھوٹا اور موٹا، گھٹیلا۔

دحر ا۔ دَحَرَ ـَ دَحْرًا و دُحُورًا و مَدْحَرۃً ہٗ: کو ہکالنا، دھتکارنا، دور کرنا، ہٹانا۔ صفت: داحِر و دَحُور۔ صفت مفعولی: مَدْحُور۔

۲۔ دَحْرَجَ ہٗ کو لڑھکانا، تَدَحْرَجَ لڑھکنا۔ الدُّحْرُوجۃ جمع دَحَارِیج: گبریلے کی بنائی ہوئی گولی۔ الدَّحْرِیجَۃ: گندم کا چھوٹا دانہ۔ (عام زبان میں)۔

○ دَحَرَ ـَ دَحْرًا و دُحُورًا ہٗ: کو ہانکنا، ہانک کر لیجانا، لے جانا، کو دور کرنا، ہٹانا، نکال دینا۔ ـــ ہٗ: (فوج) کو شکست دینا، اِنْدَحَرَ ہانکا جانا، ہانک کر لیجایا جانا، لے جایا جانا، شکست فاش دینا جانا، کی صفوں میں بھگدڑ ہونا، دھکیلا جانا، دور کیا جانا، پشت کے بل گرنا، (فوج کا) شکست کھانا، ناکام ہونا، تباہ ہونا، شکار ہونا، ٹوٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، گڑبڑ ہونا۔ اِنْدِحار: جلاوطنی، اخراج، دیس نکالا، استرداد، (جمع اندحارات) شکست (فوجی)، تباہی، بربادی، سقوط، زوال، ہار، کمر ٹوٹ جانا، ناکامی، آفت، آشوب، اندحار الکون: دنیا کا خاتمہ، مَدْحُور شکست خوردہ، دھکیلا ہوا، دور کیا ہوا، دھتکارا ہوا، برادری سے نکالا ہوا، جلاوطن کیا ہوا۔

○ دَحْرَجَ ہٗ: کو لڑھکانا، تَدَحْرَجَ لڑھکنا۔

دحز: ـَ الدَّحز بہت سخت۔

دحس ا۔ دَحَسَ ـَ دَحْسًا بین القوم لوگوں میں فساد برپا کرنا۔ ـــ بالشرّ ایسے طریقے سے برائی کرنا کہ دوسرا نہ جانتا ہو۔ الدَّحّاس و الدُّحّاس جمع دَحَّاسَات و دحاحیس (ح): زمین کے اندر رہنے والا زرد کیڑا۔

۲۔ دَحَسَ ـَ دَحْسًا الشیءَ: چیز کو بھرنا۔ و اَدْحَسَ السنبلُ بالی میں دانہ پڑنا۔ الدَّحَاس من البیوت اہل خانہ سے بھرا ہوا گھر۔ الدَّیْحَس بہت، کثیر (ہر چیز کا)۔

۳۔ دَحَسَ ـَ دَحْسًا ہر جلد پاؤں سے کریدنا۔

۴۔ دَحَسَ ـَ دَحْسًا المجزّار قصائی کا کھال اتارنے کے لئے ہاتھ کھال میں گھسانا۔ الثوبَ فی الوعاء: کپڑے کو برتن میں داخل کرنا۔

۵۔ دَحِسَ ـَ دَحَسًا اصبعُہٗ: کی انگلی کا متورم ہونا، سوجنا۔ صفت: مَدْحُوس۔ مَدْحُوسۃ: متورم انگلی۔ الداحِس والداحُوس: انگلی کے سرے پر ورم، سوجن۔

○ داحِس جمع دَوَاحِس انگلی کی سوجن۔

○ دَحَسَ ـَ دَحْسًا داخل کرنا، ڈالنا، ٹھونسنا، گھسانا، بھونکنا، دھکیلنا، ٹھیلنا، ناجائز مسلط کرنا، خفیہ طور پر یا ناجائز طور پر درآمد کرنا، اِنْدَحَسَ: ملانا، خلط ملط کرنا، مخل ہونا، مداخلت کرنا، خواہ مخواہ، دخل دینا۔

دحص: دَحَصَ ـَ دَحْصًا المذبوحُ ہر جلہ ذبح کئے جانے والے جانور کا پاؤں پٹکنا۔ ـــ الرجلُ جلدی کرنا۔

دحض ا۔ دَحَضَ ـَ دَحْضًا و دُحُوضًا الحجّۃَ دلیل کو باطل کرنا۔ ـتِ الحجّۃُ دلیل کا باطل ہونا۔ ـــ ت الشمسُ: سورج کا مغرب کی طرف ڈھل جانا۔ اَدْحَضَ الحجّۃَ دلیل کو باطل کرنا۔ اِنْدَحَضَ البرهانُ: دلیل کا باطل ہونا، غلط ثابت ہونا۔

۲۔ دَحَصَ ـَ دَحْصًا: مذبوح کی طرح پاؤں پٹکنا۔ عن الامر: کی تفتیش کرنا۔

۳۔ دَحَضَ ـَ دَحَضَات رجلُہٗ: کا پاؤں پھسلنا۔ المطرُ التلاعَ بارش کا زمین کو پھسلنی بنانا، پھسلنے والی بنانا۔ اَدْحَضَ الرجلَ پاؤں پھسلانا۔ الدَّحْض والدَّحَض جمع دِحاض من الامکنۃ: پھسلنی جگہ۔ المَدْحَضَۃ: پھسلانے والی جگہ۔

○ دَحَضَ ـَ دَحْضًا و دُحُوضًا: (دلیل وغیرہ کا) ضابطہ کے مطابق نہ ہونا، باطل ہونا، بودا ہونا، کمزور ہونا، غیر مستحکم ہونا۔ ـــ ہ (دلیل کو) غلط ثابت کرنا، کی تردید کرنا، کو کالعدم قرار دینا۔ دَحَّضَ و اَدْحَضَ ہ: دلیل کو غلط ثابت کرنا، دلیل کی تردید کرنا، دلیل کو کالعدم قرار دینا۔ دَحْض تغلیط، بطلان، تردید۔ دُحُوض: کالعدم ہونا، غیر معتبر ہونا، کمزوری، قابل تردید و تغلیط ہونا (دلیل یا دعویٰ کا)۔ دَعْوی مِدحاض: ایک قانوناً بے ضابطہ اور بے جواز دعویٰ۔

دحق ا۔ دَحَقَ ـَ دَحْقًا و اَدْحَقَ ہٗ: کو دور کرنا، دھتکارنا، ہکالنا۔ اِنْدَحَقَ: اپنی جگہ سے نکل پڑنا۔ الدَّحیق: دور، دور کیا ہوا۔ دَحِیقُ القوم قوم کا دھتکارا ہوا۔ مُنْدَحِقُ البطن: بڑے پیٹ والا۔ چوڑے پیٹ والا۔

۲۔ الداحِق احمق، غضبناک

دحل ا۔ دَحَلَ ـَ دَحْلًا بھاگ کر چھپ جانا، دور ہونا، دَحِلَ ـَ دَحَلًا ڈھیلے پیٹ والا ہونا، صفت: دَحِل۔ الدَّحِل پست قد فربہ ڈھیلے پیٹ والا۔

۲۔ دَحَلَ ـَ دَحْلًا البئرَ: کنویں کو ایک جانب میں کھودنا۔ و اَدْحَلَ فی الدَّحل: کھوہ میں داخل ہونا، گھسنا۔ الدُّحْل والدَّحل جمع دِحال و اَدحال و اَدْحُل و دُحُول و دُحلان: اوپر سے تنگ نیچے سے کشادہ کھوہ۔ الدَّحْلَۃ: کنواں۔ البئرُ الدَّحُول و الدَّحلاء اوپر سے تنگ اطراف سے پھیلا ہوا کنواں۔

۳۔ دَاحَلَ مُداحلۃً کو دھوکا دینا۔ الدَّحِل دھوکے باز۔ الدِّحال: امتناع۔ الداحُول جمع دَوَاحیل: ہرنوں کے شکار کے لئے نصب کی ہوئی لکڑی۔ ـــ والدَّحّال: لکڑی نصب کرکے شکار کرنے والا شکاری۔

دحم ا۔ دَحَمَ ـَ دَحْمًا کو زور سے دھکیلنا، ہٹانا۔

۲۔ دَحْمَسَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الدَّحْمَس

والدُّحْمُس جمع دَحَامِس: ہر سیاہ شئے۔ سخت سیاہ کہا جاتا ہے لیلٌ دُحْمُسٌ: بہت تاریک رات۔ الدُّحَامِس: بہت گندم گوں، موٹا، بہادر۔

۳-دَحْمَلَ بہ: کو زمین پر لڑھکانا۔

دحا: ادَحَا ۔ دَحْوًا البطنُ: پیٹ کا بڑا ہو کر نیچے کی طرف لٹک جانا۔ دَحَا اللّٰہُ الارضَ: اللہ تعالیٰ کا زمین پھیلانا۔ اِدْحَوَى اِدْحِوَاءً: پھیلنا۔

۲-دَحَا ۔ دَحْوًا الحجرَ بیدہ: ہاتھ سے پتھر پھینکنا۔ کہا جاتا ہے: دحا المطرُ الحَصَی عن وجہ الارض: بارش زمین پر سے پتھر بہالے گئی۔

(ن) دَحَا ۔ دَحْوًا: پھیل جانا، چوڑا ہونا، ہموار ہونا، لپٹی ہوئی چیز کا کھلنا۔ المِدْحَی جمع مَدَاحٍ: رولر، بیلن، شیم رولر، سڑک کوٹنے کا انجن۔

دحی دَحَی ۔ دَحْيًا الشيءَ: کو پھیلانا۔ تَدَحَّی تَدَحِّيًا الشيءُ: پھیلنا۔ اِنْدَحَی البطنُ: پیٹ کا کشادہ ہونا۔ الدَّحِيَّة (ح): بندریا۔ الدِّحْيَة جمع دِحَاء: فوج کا سردار۔ الأُدْحِي و الإِدْحِيّ و الأُدْحُوَّة و الأُدْحِيَّة: شتر مرغ کے ریت میں دیئے ہوئے انڈے۔

دخ: االدَّخ و الدُّخ: دھواں۔

۲-دَخْدَخَ الرجلُ: چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر تیز چلنا۔ عنہ الشيءَ: سے کسی چیز کو روکنا۔ دَخْدَخ الرجلُ: دلگیر ہونا۔

دخر: دَخَرَ و دَخِرَ دَخْرًا و دُخُورًا: ذلیل ہونا، حقیر ہونا۔ اَدْخَرَہُ: کو ذلیل کرنا۔

دخس: ادَخَسَ دَخْسًا الشيءَ في الرماد: چیز کو راکھ میں دبانا۔ فیہ: میں داخل ہونا۔ الدَّخْس: موٹا، گٹھیلے بدن کا آدمی۔ دِرْعٌ دِخَاسٌ: قریب قریب حلقوں والی زرہ۔ الدَّخِيس: گھنی گھاس۔ کہا جاتا ہے ھو دَخِيسُ اللحم: وہ پر گوشت ہے۔ کلأ دِيْخَس: بہت گنجان اور گھنی گھاس۔

۲-دَخِسَ دَخَسًا الحافرُ: کھر کا سوجنا۔ صفت: دَخِسٌ۔ الدَّخَس: جانور کے کھر کی سوجن۔

۳-الدُّخَس (ح): جوان ریچھ۔ الدُّخَس (ح): ڈالفن (Dolphin)، ایک سمندری جانور۔ عددٌ دِخَاسٌ: بہت تعداد، کثیر تعداد۔ الدَّخِيس: کثیر تعداد۔ الدَّوَاخِس والدُّخَس: دیگدان کے پائے۔

دخل: ادَخَلَ ۔ دُخُولًا و مَدْخَلًا الدارَ: گھر میں داخل ہونا۔ بہ: کو داخل کرنا۔ علیہ: کی زیارت کرنا، سے ملاقات کرنا۔ دَخَّلَ ہٗ: کو داخل کرنا۔ داخَلَ مُداخَلَةً ہٗ العُجْبُ: میں خود پسندی پیدا ہو جانا۔ ہٗ في امور: کے معاملات میں دخل اندازی کرنا۔

اَدْخَلَ اِدْخالًا و مُدْخَلًا ہٗ: کو داخل کرنا۔ تَدَخَّلَ: داخل ہونا۔ في الامور: معاملات میں خواہ مخواہ دخل دینا، مداخلت کرنا، مخل ہونا۔ الشيءُ: کسی شئے کا تھوڑا تھوڑا داخل ہونا۔ تَدَاخَلَ الشيءُ: ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ ہٗ: میں داخل ہونا۔ تِ الامورُ: امور کا ملتبس و مشتبہ ہونا۔ اِدَّخَلَ و اِنْدَخَلَ: داخل ہونا۔

الدَّخْل: آمدنی، بیماری۔ الدَّخَل: کسی قوم کی طرف غلط نسبت کرنے والے۔ الدِّخْلَة: مختلف رنگوں کے امتزاج سے ایک رنگ تیار کرنا۔ الدُّخَّل جمع دَخَاخِيل: درخت کی جڑ میں اگنے والی گھاس، لمبے چوڑے جسم گھٹے بدن والا۔ (ح): ایک چھوٹا پرندہ جو درختوں اور کھجور کے بالائی حصوں کے مابین گھس جاتا ہے۔ الداخِل (فا): اندر آنے والا۔ الداخِلَةُ جمع دَوَاخِل الإزار: ازار کا بدن کو چھونے والا حصہ، اندرونی حصہ اس کی ضد خارِجَةٌ ہے، یعنی بیرونی حصہ۔ الدِّخال: ہڈی کے جوڑوں کا آپس میں داخل ہونا۔ گھوڑے کی ایال۔ الدَّخِيل جمع دُخَلاء: اپنے آپ کو غیر قوم کی طرف منسوب کرنے والا۔ ہر عجمی کلمہ جو عربی زبان میں داخل کر لیا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے۔ ھو دَخِيلُ فلانٍ: وہ شخص فلاں کے تمام معاملات میں دخل انداز ہے، مداخلت کرتا ہے۔ المَدْخَل: داخل ہونا، داخل ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ھو حَسَنُ المَدْخَل: وہ امور کو حسن انتظام سے چلاتا ہے۔ دَخَّالُ الأُذُن: کئی ٹانگوں یا چھوٹی ٹانگوں والا سیاہ رنگ کا جانور جو آرام کے دوران کمانی دار شکل سے کنڈلی مار کر بیٹھتا ہے اور خاص طور پر ہر درخت کی چھال کی بیمار حصوں میں رہتا ہے۔ المُتَداخِل (ف): بیک وقت اور ایک ہی جگہ دو اہتزازی حرکتوں کا وقوع۔ رجلٌ مُتَداخِل: موٹا گھٹے بدن کا آدمی۔

۲-دُخِلَ امرُ فلانٍ: کسی کے معاملہ کا اندرونی خرابی رکھنا۔ في عقلہ او جسدہ و دَخِلَ ۔ دَخَلًا: کی عقل یا جسم میں خرابی کا داخل ہونا۔ صفت: مدخول علیہ۔ تَداخَلَ ہٗ: میں داخل ہو کر ایک جی ہونا۔ الدَّخَل: عیب، شک، شبہ۔ دَخَلُ الرجل: نیت، راز۔ الدَّخَل: عقل یا جسم میں فساد و خرابی، حسب و نسب کا عیب۔ دعوٰی۔ الدُّخْلَةُ و الدِّخْلَةُ و الدُّخْلَلَةُ: کی نیت، کا راز، کہا جاتا ہے ھو عفيف الدخلة: وہ نیت کا پاک ہے۔ الدِّخْلَة: راز۔ اسی سے ہے عرفتُہ دِخْلَةَ امري: میں نے اپنے کام کا راز اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ دُخُلٌ و دُخَّيلی و دُخَيْلاءُ الرجل: نیت، راز۔ داخِلَةُ الانسان جمع دواخل: نیت، مذہب، راز۔ الارض: زمین کا پست حصہ۔ دَخِيلُ الرجل: نیت، راز، مذہب، کہا جاتا ہے داءٌ دَخِيل: بدن کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جانے والی بیماری۔ دَخِيلَةُ الشيءِ: چیز کا اندرونی حصہ۔ المرء: انسان کی نیت، انسان کا ضمیر (اندرونی خیال)۔ المُدْخَل (مفع): کمینہ، رذیل، غیر قوم میں داخل ہونے والا۔ المَدْخُول: وہ جس کی عقل میں فساد و خرابی ہو، عیب دار، دبلا پتلا۔ نَخْلَةٌ مدخولة: اندر سے بد بودار کھجور کا درخت۔

۳-الدُّخْلُل و الدِّخْلِل: بھیدی، راز دار۔ دُخْلُلُ الرجلِ: اس کی نیت، راز، اس کے امور میں دخیل۔ الدِّخْلِل: گوشت میں داخل ہونے والی چربی۔

(ن) دَخَلَ ۔ دُخُولًا ہٗ: میں داخل ہونا (کبھی صلہ فی اور الی کے ساتھ) کے اندر جانا، کے اندر قدم رکھنا، چل کر جانا، میں رہنے لگنا، میں پیدا ہونا، منتخب ہونا۔ میں سرایت کرنا۔ گھس جانا، کو چیرنا۔ ہٗ: پر قابض ہونا، پر (شک) پڑنا، کو اچانک متاثر کرنا۔ (شک وغیرہ کا) پر گہرا اثر کرنا۔ خدمةً: کوئی کام شروع کرنا۔ علی: کے کمرہ یا گھر میں داخل ہونا۔ سے ملنے جانا، کی ملاقات کو جانا۔ علی/ب: (عورت) کے ساتھ ہمبستر ہونا۔ سے مباشرت کرنا، صحبت کرنا۔ علی: (خوشی کا) کسی کو متاثر کرنا، پر اثر انداز ہونا۔ علی: میں اضافہ ہونا (گرامر)، پر ایک نئے عنصر، پہلو، عنصر وغیرہ کی حیثیت سے داخل ہونا، حائل ہونا، میں نیا نیا لا کر رکھا جانا، کو حاصل کرنا۔ ہ/ فی: مذہبی، فرقہ وغیرہ میں شامل ہونا۔ ہ: میں حصہ لینا، شرکت کرنا۔ (وقت، واقعہ کا) شروع ہونا۔ فی: میں شامل ہونا۔ فی ضمن یا تحت: کے ضمرہ میں آنا، شامل ہونا، داخل ہونا، سے متعلق ہونا، کے اندر اندر ہونا۔ دُخِلَ: بیمار ہونا، غیر معمولی ہونا۔ دَخَلَ علی الامرِ تعدیلٌ: معاملہ میں ترمیم ہوئی ہے۔ معاملہ ترمیم کے عمل سے گزرا ہے۔ دَخَلَ الخدمةَ: عہدہ، نوکری کرنے لگنا، کوئی کام شروع کرنا، کام کیلئے حاضر ہونا۔ دَخَلَ المدرسةَ: سکول میں داخل ہونا، داخلہ لینا۔ دَخَلَ الميناءَ: بندرگاہ میں داخل ہونا، سمندری جہاز کا کسی بندرگاہ پر رکنا۔ دَخَلَ في الموضوع: اصل بات پر آنا۔ دُخِلَ في عقلہ (في جسمہ): کسی دماغی یا جسمانی گڑبڑ میں مبتلا ہونا۔ دَخَّلَ ہ/ ہ: کو داخل کرنا، کو داخل ہونے دینا۔ ہ فی/ ہ: کو میں داخل کرنا، ڈالنا، شامل کرنا۔ اَدْخَلَ ہ: (شک، شبہ، مایوسی کا) کسی پر نازل ہونا، یا کو قبضہ میں کر لینا۔

اَدْخَلَ ہ: کو داخل کرنا، داخل ہونے دینا، اندر لے جانا، کو آنے دینا۔ ــــ ہ فی/علی: کو میں لیجانا، کو میں کھینچا، گھسیٹنا، کھینچے ہوئے لیجانا۔ ہ ہ/فی کو میں شامل کرنا۔ ہ علی: کو میں وجود میں لانا، یا پیش کرنا، میں نئی چیز، اصلاح وغیرہ، رائج کرنا۔ اَدْخَلَہُ المدرسة: کو سکول بھیجنا۔ اَدْخَلَ تغیرًا علی: میں تبدیلی کرنا۔ اُدْخِلَتْ علیه تعدیلاتٌ: معاملہ میں تبدیلیاں کی گئیں۔ تَدَخَّلَ فی: میں خواہ مخواہ دخل دینا۔ میں مخل ہونا، مداخلت کرنا، کے بیچ میں آنا، حائل ہونا، پر چھا جانا، پر مسلط ہو جانا، میں خلل ڈالنا، کو درہم برہم کرنا، تَدَاخَلَ فی / فی شؤونه: میں، کے معاملات میں خواہ مخواہ دخل دینا۔ فی الحدیث: گفتگو میں اندھا دھند کود پڑنا۔ فی میں مخل ہونا، مداخلت کرنا، کے بیچ میں پڑنا، کے کے آڑے آنا، ایک دوسرے میں پھنسنا، ایک دوسرے میں اٹکنا، جال میں پھنسنا۔ تَدَاخَلَ بعضُهُ فی بعضٍ (ببعض): ایک دوسرے میں خلط ملط ہونا، مکمل مل جانا، ایک ہو جانا، تداخل ہ: (شک، غم وغیرہ کا) کسی پر نازل ہونا کو متاثر کرنا، کا کسی کو خیال آنا، یا سوچنا، یا کسی کو گرفت میں لینا۔

○ دخل: آمدنی، ٹیکسوں وغیرہ سے کسی حکومت کی آمدنی، جیسے مالیہ، منافع، وصولی، کل آمدنی، مجموعی یافت، مداخلت، شک، بے اعتمادی۔ ضریبةُ الدخل: انکم ٹیکس لیس له ای دخل فیه یا لا دخلَ له فی/ب: اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسے چاہئے کہ وہ اس معاملہ میں خواہ مخواہ دخل نہ دے، اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ دَخَل: گڑبڑ، خرابی، خلل، پاگل پن، دیوانگی، پراگندگی، فساد، بے ضابطگی، بیماری، مرض، علالت، عدم توازن یا دماغی نقص، عیب، کمزوری، دِخْلَة: داخلی یا باطنی طبیعت، لازمی جزو، داخلی ذات دل، روح، ضمیر (کسی شخص کی) خفیہ ارادہ۔ رَاجَعَ بِخْلَتَهُ: اپنے ضمیر کو ٹٹولنا، اپنے آپ سے راز و نیاز میں ڈوبنا۔ لیلةُ الدُخْلَة: شب عروسی دُخَّلَة: ایک گانے والے پرندہ کی قسم۔ دَخِیل: اندرونی، داخلی، باطنی، اندر کی طرف، دل، داخلی ذات، گودا، مغز، جمع دُخَلاء، اجنبی، پردیسی، غیر متعلق، غیر ملکی، بیرونی، دخیل (کلمات) غیر حقیقی جھوٹا، دروغ گو، جعلی، ــ علی: میں نیا نیا شامل ہونے والا۔ ــــ: نوآموز، اناڑی، نو مذہب، مہمان، متوسل، زیر نگرانی یا زیر حمایت شخص، زیر نگرانی شخص، زیر ولایت، کلمةٌ دخیلةٌ اور لفظٌ دخیلٌ غیر ملکی لفظ یا الفاظ۔ دَخِیلَك: مہربانی ہوگی، ازراہ نوازش، ازراہ کرم، دَخِیلَة جمع دَخَائِل: داخلی ذات، قلبی ہستی، باطنی طبیعت، جوہر، روح، دل، فی دخیلة نفسه: اپنے دل میں، دلی طور پر، روحانی طور پر، دخائلُ نفوسنا: ہمارا بالکل اندرونی وجود۔ دخائلُ الأمور: چیزوں کی اصل اور بنیادی طبیعت۔ چیزوں کے اصل عناصر۔ دخائل شؤونه: کے نجی یا داخلی معاملات۔ دُخُول: داخل ہونا، دخول، داخلہ داخل ہونا آنا، شروع، آغاز، گھسنا، مداخلت بیجا، دخل اندازی، زبردستی داخل ہونا، حملہ، یورش، چڑھائی، دھاوا، تصرف، دست درازی، قبضہ، شادی کی پہلی مباشرت، مجامعت یا صحبت۔ دخول الحرب: جنگ میں داخلہ۔ دُخُولِیَة: محصول چونگی۔ مَدْخَل جمع مَدَاخِل: راستہ، گزرگاہ، دروازہ، ڈیوڑھی، پیش دالان، برآمدہ، داخلہ ہال (بندرگاہ، نہر کا) دہانہ منفی قطب (Anode) آگہی کے کسی شعبہ کا تعارف، رویہ، طرز عمل، طور طریقہ، مدخلٌ للسیارات: گاڑیوں کے استعمال کیلئے کسی مکان اور سڑک کے درمیان نجی سڑک (Drive-Way)۔ مدخلٌ لدراسة القانون: مطالعہ قانون کا تعارف۔ حُسْنُ المدخل: اچھا طرز عمل، عمدہ تہذیب، شائستگی۔ مُدَاخَلَة: مداخلت۔ فی: میں شرکت، دلچسپی، اِدْخَال: اندر لیجانا، داخل کرنا، الجھانا، شامل کرنا، پھنسانا، پوشیدہ معنی، منشا، الجھاؤ، پیچ، لپیٹ، اندراج، شمولیت، الحاقی عبارت، تحریف، اضافہ، الحاق، تشکیل، ادخال: داخلہ، شرکت، رواج دہی، اجراء، آغاز، تعارف (جیسے دستور کا اجراء)۔ علی: کسی آلہ وغیرہ کی اصلاح۔ تَدَخُّل: داخلہ، حملہ۔ فی: میں مداخلت، دست اندازی، کے درمیان میں آنا، خلل اندازی، زبردستی داخل ہونا، مداخلت بیجا، زبردستی گھسنا، عدم التدخل: عدم مداخلت، تَدَاخُل: مداخلت، ایک دوسرے میں پھنسنا، اٹکنا، ایک دوسرے کے ساتھ متقفل ہونا، ایک دوسرے کے اوپر رکھنا، سرایت، نفوذ، داخِل فی: کے متعلق کے تحت آنے والا، میں شامل۔ داخلی: اندرونی باطنی، اندر کی طرف، (کسی چیز کا) اندرونی حصہ۔ داخِلَ: کے اندر، کے اندر اندر میں داخلاً: اندر کی طرف، اندر، من الداخل: اندر سے داخِلة جمع دَوَاخِل: اندر کا حصہ، پوشیدہ حصہ، بالکل اندرونی۔ الداخلة: (وسطی مصر میں) داخلہ نامی نخلستان۔ داخلی: داخلی اندرونی، اندر کی طرف، گھریلو، ملکی، وطنی، (غیر ملکی کے مقابل میں جسے عربی میں خارجی کہتے ہیں) دیسی، وطنی، اصلی، قدرتی، غیر مصنوعی، نجی، گھر کے متعلق، گھر کا داخِلِیًّا: اندر سے۔ تلامیذ داخلیة: اقامتی طلبہ (تلامیذ خارجیة دن کے یا غیر اقامتی طلبہ) حرب داخلیة: خانہ جنگی، مدرسة داخلیة: اقامتی مدرسہ یا سکول ملابس داخلیة: زیر جامہ۔ ملاحة داخلیة: اندرونی جہازرانی (ملک کے اندر جہازرانی) داخلیة: اندرون ملک۔ داخلیة البلاد: ملک کا اندرون، اندرونی علاقہ۔ وزارةُ الدخلیة: وزارت داخلہ۔ وزیر الداخلیة: وزیر داخلہ۔ مَدْخُول: بیمار، خلاف معمول، دماغی (طور پر) کمزور، کمزور کردار والا، غیر مستقل مزاج، بے ہمت، (جمع مَدَاخِیل: مالیہ، آمدنی) حکومت کی ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمد، کل آمدنی، مجموعی یافت۔

دخم: ا۔ دَخَمَ ـ دَخْمًا ہُ: کو گھبرا کر ہٹانا۔

۲۔ دَخْمَسَ دَخْمَسَةً ہُ: کو دھوکا دینا۔

○ دَخْمَسَ دَخْمَسَةً علی: (اپنے حقیقی ارادوں کے بارے میں) کو بیوقوف بنانا کو جل دے جانا، کو دھوکا دینا، سے اپنے ارادے چھپانا۔ ــ: عیار ہونا، مکار ہونا، فریبی ہونا، چالاک ہونا۔ دَخْمَسَة: بیوقوف بنانا، دھوکا، فریب، دغا عیاری، چالاکی، مکاری۔

دخن: ا۔ دَخَنَ ـ دَخْنًا و دُخُونًا و اَدْخَنَ و اِدَّخَنَت النارُ: آگ سے دھواں اٹھنا۔ دَخِنَ ـ دَخَنًا الطعامُ و اللحمُ وغیرهما: کھانے، گوشت وغیرہ میں دھواں لگ کر دھوئیں کی بو دینے لگنا صفت دَخِن۔ ــ ت النارُ: آگ کا دھواں اٹھانا۔ ــ و دَخُنَ ـ دُخْنَةً: دھوئیں کے رنگ کا ہو جانا۔ صفت: اَدْخَن مؤنث دَخْناء۔ دَخَّنَ: تمباکو نوشی کرنا۔ یہ بھی کہتے ہیں۔: دَخَّنَ لفافةً او نارجیلةً: اس نے سگریٹ پی یا حقہ پیا۔ ــ الشیءَ: کو دھونی دینا۔ تَدَخَّنَ: دھوئیں کی بو دینا۔ ــ النارُ: آگ سے دھواں اٹھنا۔ الدَخَن (مص): دھواں۔ الدُخْنَة: دھواں رنگ، خوشبودار دھواں، عود، لوبان۔ الدُخَان و الدُخَّان جمع اَدْخِنَة و دَوَاخِن و دَوَاخِین: دھواں، (مولدین کی اصطلاح میں) تمباکو۔ المَدْخَن: دھوئیں کی جگہ۔ المدخنة: دھواں نکلنے کی چمنی۔ عام لوگ اسے داخون کہتے ہیں اس کی جمع دواخین ہے۔ المِدْخَنَة جمع مَدَاخِن: انگیٹھی۔ الدَاخِنَة جمع دَوَاخِن: دھوا نکلنے کا روشندان، چمنی۔ الدَخْنَان مؤنث دَخْنَانَة: دھوئیں سے ڈھانکی ہوئی چیز۔

۲۔ دَخِنَ ـ دَخَنًا خُلُقُهُ: بد عادت ہونا، بد خلق ہونا۔ الدَخَن (مص): فساد، خرابی (کہا جاتا ہے۔ لست

أصالحه علی دَخَنٍ: میں اس کے مکر وفساد کی حالت میں اس سے مصالحت نہیں کروں گا۔) کینہ، عقل، دین اور حسب میں تغیر۔

۳۔ اِدَّخَنَ الزرعُ: کھیتی کے دانوں کا سخت ہو جانا۔

۴۔ الدُّخن واحد دُخنۃ: (ن) باجرا، کنگنی۔ ابو دُخنۃ (ح): ایک قسم کا پرندہ چنڈول جیسے رنگ کا۔

○ دَخِنَ۔ دَخَناً: دھویں جیسا ہونا، دھوئیں کی بو یا ذائقہ دینا۔ دَخَنَ۔ُ دَخناً: دھواں چھوڑنا، سے (آگ سے) دھواں نکلنا۔ دَخَّنَ ہ: کو دھونی دینا، سے دھواں اٹھنا، کو دھویں سے سکھانا، درست کرنا، ۔ ہ: سگریٹ پینا، تمباکو پینا، حقہ پینا۔ اِدَّخَنَ: آگ سے دھواں نکلنا۔ آگ کا دھواں چھوڑنا۔ تَدَخَّنَ: دھواں اٹھنا، پھیلنا، دھویں سے ٹھیک ہونا، خوشبودار ہونا، معطر ہونا، دھونی دیا جانا، دُخن باجرہ، کنگنی، جوار (مفسّر) دخن دھواں، دھونی، بخارات، دُخان (دُخّان) جمع اَدخنۃ: دھواں، دھونی، بخارات، تمباکو۔ دُخنۃ: دھواں رنگ، ایک قسم کی لوبان خوشبودار دھواں، عود۔ دَخِینۃ: سگریٹ۔ دَخاخِنی: تمباکو فروش۔ مَدخنۃ جمع مَداخِن: چمنی، (دخانی جہاز، ریلوے انجن یا فیکٹری سے دھواں یا بھاپ نکلنے کی) چمنی دود کش، تَدخِین: دھونی دینا، مچھلی کو محفوظ رکھنا، تمباکو نوشی۔ داخِنۃ جمع دَواخِن: چمنی، (دخانی جہاز، ریلوے انجن یا فیکٹری کے دھویں اور بھاپ نکلنے کی) چمنی۔ مُدَخِّن: تمباکو کو پینے والا، تمباکو نوشی کا عادی، دھویں میں سکھانے والا۔

دخی: الدَّخی: تاریکی۔ لیلۃٌ دَخیاء: تاریک رات۔

دد: الدَدَ: کھیل کود (اس کا لام کلمہ غد کی طرح یعنی محذوف ہے۔ کبھی اس واو کو الف سے بدل کر الدَدا کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ ما انا فی دَدٍ ولا الدَدُ مِنّی: میرا کھیل کود سے کوئی تعلق نہیں اور نہ یہ میرا کوئی شغل ہے)۔ وقت: کہا جاتا ہے: مضی دَدٌ من الدھر: زمانہ کا کچھ وقت گزر گیا۔

۲۔ د۔ د۔ ت (لٹ) ڈی ڈی ٹی۔ کیڑے مکوڑے مارنے کا ایک کیمیاوی مرکب۔

ددب: الدَیدَب و الدَیدَبان (فارسی لفظ): چوکیدار، نگہبان، ہراول، رہبر۔

☆ دَیدَبان و دَیدُبان جمع دیدبانات و دیادبۃ پہرہ دار، سنتری، دیدبان المراکب۔ جہاز ران۔

ددن: الدَدَن: لہو ولعب۔ الدَدان: بے دولت، بے خیر، کند تلوار، شمشیر بُرّان (ضد)۔ الدَیدَن و الدَیدان: عادت، معمول۔

درّ: ا۔ دَرَّ۔ِ دَرّاً الحلیبُ: دودھ زیادہ ہونا۔ ۔ ت الدنیا علی اھلھا: دنیا کے خیر کی اہل دنیا پر فراوانی ہونا۔ ت الناقۃُ بلبنھا: اونٹنی کا بہت دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے۔ درّت حلوبتہُ: اس کی آسودگیاں بڑھ گئیں۔ دَرّاً و دُرُوراتِ العروقُ: رگوں کا خون سے بھر جانا۔ العَرَقُ: پسینہ بہنا۔ ۔ ت السماءُ: بارش کا برس پڑنا۔ اَدَرَّت الناقۃُ: اونٹنی کا دودھ زیادہ ہو کر بہنا۔ کہا جاتا ہے۔ اَدَرَّ اللّٰہ لك اخلاف الرزق: اللہ تعالیٰ تم کو رزق کی فراوانی سے نوازے۔ اِستَدَرَّ اللبنُ: دودھ زیادہ ہونا ۔۔۔۔ ہُ: کو بہنے دینا۔ الدَرّ (مص): دودھ، دودھ کی زیادتی۔ کہا جاتا ہے۔ لِلّٰہِ دَرُّہُ: اس کی خوبی اللہ ہی کے لئے ہے۔ لَادَرَّ دَرُّہُ: خدا کرے اس کی بھلائی زیادہ نہ ہو، اسی سے ضرب المثل ہے۔ لِکلِّ دَرٍّ حالبٌ: ہر دودھ کا کوئی دوہنے والا بھی ہے۔ الدارّ (فا) جمع دُرُور و دُرَّر و دُرّار: بہت دودھ والی اونٹنی۔ الدِرّۃ جمع دِرَر: دودھ، دودھ کی زیادتی، دودھ کا بہاؤ، خون۔ الدَرُور: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ حربٌ دَرُورٌ: خونریز جنگ۔ التِدِرّۃ: بہت دودھ۔ المِدرار: بہت بہنے والا یا بہت دودھ والا۔ کہا جاتا ہے۔ عینٌ مِدرارٌ: بہت آنسو بہانے والی آنکھ۔ سماءٌ مِدرارٌ: بہت برسنے والا بادل۔

۲۔ دَرَّ۔ِ دَرّاً النباتُ: سبزہ پھوٹنا اور گنجان ہونا۔

۳۔ دَرَّ۔ِ دَرّاً و دُرُوراً السراجُ: چراغ کا روشن ہونا۔ ۔ دَرّاً وجھُہ: بیماری کے بعد چہرے پر رونق آجانا۔ رنگ کا بحال ہونا۔ الدُرّ واحد دُرّۃ جمع دُرَر و دُرّات: بڑے موتی۔ الکوکبُ الدُرّی بتثلیث الدال (فلک): چمکتا ہوا روشن ستارہ۔ دُرّیُّ السیف: تلوار کی چمک دمک، آب و تاب۔ الدَریر: روشن چراغ۔

۴۔ دَرَّ۔ِ دَرّاً و دُرُوراتِ السوقُ: گرم بازاری ہونا۔

۵۔ دَرَّ۔ دَرِیراً الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ اَدَرَّ المغزلَ: تکلے کو زور سے گھمانا۔ الشيءَ: کو حرکت دینا۔ ت الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل لانا۔ استدرّت الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل لیکر آنا۔ دَرُّ الریحِ: ہوا کی سمت۔ فرسٌ دُرّیٌ بتثلیث الدال: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔ الدَریر (مص): تیز رفتار جانور۔ الدَرّارۃ: تکلہ۔

۶۔ اَدَرَّ علیہ الضربَ: کو پے در پے مارنا۔ الدِرّۃ جمع دِرَر: کوڑا۔ کہا جاتا ہے۔ مَرَّ علی دِرّتِہ: اس کو کوئی چیز اپنے ارادے سے نہیں پھیر سکتی۔

۷۔ الدَرّ: روح، نفس۔ دَرَرُ الطریق: راستے کا بیچ۔ کہا جاتا ہے: ھما علی دَرَرٍ واحدٍ: وہ دونوں ایک ہی راہ پر گامزن ہیں۔ الدُرّۃ (ح) طوطا۔

○ دَرَّ۔ُ دَرّاً: افراط سے بہنا، بہنا، پھوٹ کر نکلنا، ابلنا۔ علی: کے لئے بڑھنا (منافع، دولت کا) ۔۔۔: بافراط ہونا، بہت ہونا، فراواں ہونا۔ اَدَرَّ: بہانا۔ ہ علی: کوئی چیز کسی کو دل کھول کر دینا، کسی چیز کی کسی پر بھرمار کرنا، کسی چیز کی کسی پر بوچھاڑ کرنا سے کسی کو گھیرے میں لے لینا ۔۔۔ ہ علی: نفع کسی کو دینا، اِستَدَرَّ: بہنا، کی بہتات ہونا۔ ہ: کے فراواں بہاؤ کا باعث ہونا یا اس کی کوشش کرنا، کو بہت نفع آور بنانا، کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، نفع حاصل کرنا چاہنا، روزی کی کوشش کرنا۔ درّ: دودھ، کامرانی، کارنمایاں، فضیلت۔ لِلّٰہِ دَرُّہُ: اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، وہ کتنا لائق، اچھا یا عمدہ ہے۔ دُرّ: موتی (جمع) دُرّۃ جمع دُرّات و دُرَر: موتی: طوطے کی ایک قسم۔ دُرّی: جگمگاتا ہوا، درخشاں، منور، چمکدار، روشن، تاباں (ستارہ)۔ دِرّۃ و دَرّۃ جمع دِرَر: چوچی، سرپستان، تھن، پستان، مِدرار: بہت بارش برسانے والا (آسمان، بادل)، زور سے بہنے والا، دھار بن کر بہنے والا، زور سے ہونے یا پڑنے والی (بارش)۔ پھوٹ نکلنے والا (پانی) دارّ: زور سے بہنے والا، بارآور، زرخیز، ثمرآور، نفع بخش، پرمنفعت، سودمند، نفع رساں، مُدِرّ، مُدِرّ للبول جمع مدارت البول: پیشاب آور دوا۔ مُدِرّ للعرق: پسینہ آور، عرق آور۔

درأ: ا۔ دَرَأَ۔َ دَرءاً و دَرأۃً ہ: کو زور سے دھکیلنا، ہٹانا۔ السیلُ علیہ: پر سیلاب کا امنڈ پڑنا۔ کہا جاتا ہے۔ دَرَأَ الرجلُ علینا: وہ شخص اچانک ہم پر ٹوٹ پڑا۔ دارَأَ مُدارأۃً ہ: ایک دوسرے کو دفع کرنا۔ تَدارَأَ تَدارُؤاً القومُ: جھگڑے میں بات کو ایک دوسرے پر ڈالنا۔ اِندَرأَ السیلُ: سیلاب کا ایک بیک امنڈ پڑنا۔ الحریقُ: آگ کا پھیل جانا۔ فلانٌ علینا: کسی کا ہم پر اچانک نمودار ہونا۔ الدَرءُ: پیچھے ہٹانا، روکنا، (اسی سے ضرب المثل ہے) دَرءُ المفاسد اولی من جلب النِعَم: مفاسد کو دور کرنا نعمتیں حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے۔ جاء السیلُ دَرءاً: سیلاب کسی کا نامعلوم جگہ سے اچانک بہہ آیا) مخالفت۔ المِدرأ: ہٹانے کا ذریعہ۔ الدَرِیئۃ: نشانہ بازی سکھانے کا حلقہ۔ التُدرأ و التُدرأۃ: عزت و شوکت کا مالک اور دشمن کو دفع کرنے والا۔

۲۔ دَرَأَ۔َ دَرءاً و دَرأۃً الشيءَ: کو پھیلانا، بچھانا۔

۳۔ دَرَأَ۔َ دُرُوءاتِ النارُ: آگ کا روشن ہونا۔ البدرُ:

پورے چاند کا چمکنا۔الدُّرِّیّ والدِّرِّیُّ چمکدار ستارہ۔ الدَّرَارِیُّ (فلک) نامعلوم الاسم بڑے بڑے ستارے۔

۴۔دَارَأَ مُدَارَأَۃً ہُ سے نرمی برتنا، نرمی کا سلوک کرنا، کو دھوکا دینا، سے دھوکا کرنا۔ تَدَرَّأَ تَدَرُّؤًا الصائدُ: شکاری کا شکار سے چھپ کر اس کو دھوکا دینا۔اِدَّرَأَ الصیدَ وللصید شکار کے لئے گھات میں بیٹھنے کی جگہ تیار کرنا۔الدَّرِیئَۃ شکار کو دھوکا دینے کے لئے گھات کی جگہ۔

۵۔تَدَرَّأَ تَدَرُّؤًا علیہ کی طرف جبر وتشدد کا ہاتھ دراز کرنا۔

۶۔الدَّرْءُ نیزہ وغیرہ کی چھڑی کی کجی۔کہا جاتا ہے۔ قَوَّمْتُ دَرْءَہُ میں نے اس کی کجی کو ٹھیک کر دیا۔

○ دَرَأَ۔ دَرْأً ہ کو مسترد کرنا، ہ عن: کو سے ہٹانا، دور کرنا۔ خطراً عنہ خطرہ کو کسی سے دور کرنا۔اِدَّارَأَ فی میں مسابقت کی کوشش کرنا۔دَرْءٌ پیچھے ہٹانا، دور کرنا، روکنا، مزاحمت، منع کرنا، پھیرنا، موڑنا، ہٹانا، دور کرنا۔دَرِیئَۃ جمع دریئات ہدف، نشانہ، چاند ماری کا نشان۔

○ درابزین: جنگلا، زینے کا جنگلہ، منڈیر، کٹہرا۔

درب ادَرِبَ۔دَرَبًا و دُرْبَۃً ہوشیار اور ماہر کاریگر ہونا۔ بالشیء: کا عادی ہونا، دلدادہ ہونا، صفت: دَرِب و دارِب مؤنث دَرِبَۃ و دارِبَۃ، دَرَّبَ ہُ بالشیء و فیہ و علیہ: کو کسی چیز کا عادی بنانا۔الجندیُّ: فوجی کا بھگدڑ مچنے کے بعد بھی جنگ میں ڈٹا رہنا۔(یہ دُرْبَۃ سے ماخوذ ہے)تَدَرَّبَ بالشیء و فیہ و علیہ کا عادی ہونا۔الدَّرْب جمع دُرُوب و دِراب: راستہ گلی کا کشادہ دروازہ، سب سے بڑا دروازہ۔ الدُّرْبَۃ (مص) عادت۔ لڑائی اور ہر کام میں جرأت و دلیری۔کہا جاتا ہے:نِعْمَ العَفْوُ دُرْبَۃً: عفو و درگزر بڑا دلیری کا کام ہے۔الدُّرُوب و الدَّرَبُوتُ من الجمال و النوق: سدھایا ہوا اونٹ یا اونٹنی۔(الدُّرْبَۃ سے ماخوذ ہے) الدُّرَّابَۃ: جرأت، دلیری (لڑائی وغیرہ میں) المُدَرَّب (مفع): تجربہ کار، مصائب زمانہ جھیلے ہوئے۔من الابل: سدھایا ہوا اور گلیوں میں چلنے کا عادی اونٹ۔

۲۔اَدْرَبَ: بگل بجانا۔القومُ: دشمن کی سرزمین میں دخل ہونا۔

۳۔الدِّرْبان و الدَّرْبان جمع دَرَابِنَۃ: دربان (فارسی لفظ)

۴۔دَرْبَزَ البابَ: دروازہ بند کرنا اور اندر سے کنڈی لگا کر باہر سے کھولے جانے کا سد باب کرنا۔(عام لوگوں کی زبان میں)الدَّرْبَزِین و الدَّرَابزِین و الدَّرَابزُون جمع دَرَابِزُونات: ستونوں کا جنگلہ۔(یونانی لفظ)

۵۔الدِّرْبَاس (ح) شیر۔(ح) کاٹنے والا کتا۔

۶۔دَرْبَصَ دَرْبَصَۃً: خوف سے خاموش ہو جانا۔

۷۔الدَّرْبَنْد: دکان کا قفل (فارسی لفظ)

○ دَرِبَ۔ دَرَبًا و دُرْبَۃً ب: کا عادی ہونا، میں تربیت یافتہ ہونا، ماہر ہونا۔دَرَّبَ ہ فی باب یا علی: کو کا عادی بنانا، کو کی عادت ڈالنا، کو کا خوگر کرنا، کو میں سدھانا۔ ہ فی /ب/علی: کو کی مشق کرانا، کو کی تربیت دینا، کو کی تعلیم دلانا یا دینا، میں کی اتالیقی کرنا، تَدَرَّبَ فی/علی: کا عادی ہونا، میں مشاق ہونا، ماہر ہونا، تربیت یافتہ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا۔ کھلاڑی کا سدھایا ہوا ہونا۔دَرْب جمع دُرُوب: پہاڑ کا تنگ درہ، راستہ، سڑک، گلی، کوچہ۔دَرْبُ التَّبَّانَۃ: کہکشاں۔دُرْبَۃ: خوپذیری، میلان، رغبت، رجحان، عادت، واقفیت، تجربہ، مہارت، مشق،دَرِبَۃ: عدالت درخواست۔تدریب: عادی بنانا، خوگر بنانا، عمل، مشق، تعلیم دینا، تربیت، اتالیقی کرنا، سکھانا، سدھانا۔التدریب العسکری: فوجی تربیت۔مُدَرَّب جمع مُدَرَّبُون: تجربہ کار، مشق کیا ہوا، ماہر، تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ۔ مُدَرِّب جمع مُدَرِّبُون: انسٹرکٹر، تربیت دینے والا کوچ (کھیلوں میں)، سدھانے والا (جانوروں کو)۔

○ دَرْبَسَ ہ: دروازہ کی چٹخنی چڑھانا، دروازہ کو کنڈی لگانا، دِرْبَاس جمع دَرَابِیس: چٹخنی، دروازے کی چٹخنی، دروازے کا کھٹکا۔

○ دَرْبُکَّۃ و دِرْبُکَّۃ جمع دربکات: دمدمہ، نقارہ، ڈھولک۔دَرْبَکَۃ: شور وغل، کھلبلی، دھماکہ خیز کڑکڑاتی آواز۔

درج: ادَرَجَ۔دُرُوجًا و دَرَجَانًا الشیخُ او الصبیُّ، بوڑھے یا بچے کا چلنا۔دَرَجَ۔ دَرَجًا: اپنے راستہ پر چلنا۔اِسْتَدْرَجَ ہُ: کو زمین پر چلانا۔الدَّرَج جمع اَدْرَاج و دِرَاج: راستہ، کہا جاتا ہے خَلِّہٖ دَرَجَ الضَّبِّ: جس طرح وہ جاتا ہے جانے دو۔(اسے اپنے حال پر چھوڑ دو) رجعتُ اَدْرَاجی: میں جس راستہ سے آیا تھا، اسی سے لوٹا۔الدَّارِج (فا) کہا جاتا ہے صبیٌّ دارجٌ: پاؤں پاؤں چلنے والا بچہ۔الدَّارِجَۃ جمع دَوَارِج: جانور کی ٹانگ۔الدَّرَّاج: چغل خور (ح) بٹیر۔الدَّرَّاجَۃ: سائیکل۔عام لوگ اسے کَرَّاجۃ کہتے ہیں۔البسکلت بھی کہا جاتا ہے۔محاصرہ کی مشین۔المَدْرَج جمع مَدَارِج: راستہ، مسلک، (لامشی فی مدرج الحق: حق کے راستہ پر چلو) ہوائی اڈے میں طیارے کی سڑک۔(Run Way) مَدْرَجُ النَّمْلِ: چیونٹیوں کے چلنے کی جگہ۔کہا جاتا ہے ھو اخفی من مدرج النمل: وہ چیونٹیوں کے راستہ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔۔۔۔ الاکمۃ: ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے پہاڑی راستے۔المَدْرَجَۃ جمع مَدَارِج: راستہ، راستے کا بڑا حصہ۔

۲۔دَرَجَ۔ دُرُوجًا و دَرَجَانًا الرجلُ: سیڑھیوں پر چڑھنا۔البناءَ: کو منزلوں والا مکان بنانا۔دَرِجَ۔ دَرَجًا: ترقی کے مدارج طے کرنا۔دَرَّجَ البناءَ: عمارت کا زینہ بنانا۔ ہ الی کذا: کو دھیرے دھیرے کسی کے قریب کرنا۔تَدَرَّجَ الی کذا: کی طرف رفتہ رفتہ بڑھنا۔اِسْتَدْرَجَ ہُ: کو ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں ترقی دینا، کو دھوکا دینا۔۔۔ ہ الی کذا: کو کے قریب کرنا۔الدَّرَج جمع اَدْرَاج و دِرَاج: ایک دوسرے پر مراتب دَرَجُ السُّلَّمِ: سیڑھی کا پایا۔الدَّرَجَۃ جمع دَرَج: سیڑھی۔ جمع دَرَجَات: طبقہ، رتبہ، درجہ، مرتبہ، چھوٹے یا بڑے دائرے کے محیط کا ۳۶۰واں جزء۔۔۔ السینیۃ: زاویہ قائمہ کے ۹۰ اجزاء میں سے ایک جزء جو ۶۰ دقیقہ کے برابر ہوتا ہے۔ دقیقہ کے ۶۰ ثانیے ہوتے ہیں اور ثانیہ کے دس ثالثے اور ثالثہ دس روابع کا ہوتا ہے۔عرب ثانیہ کو ۶۰ ثالثوں میں اور ثالثہ کو ۶۰ رابعوں میں تقسیم کرتے تھے وقس علی ھذا۔المئویّۃ او غراد: زاویہ قائمہ کا ایک سواں جزء جو عشری طریقے کے مطابق ۱۰ ڈیسی گریڈ اور ڈیسی گریڈ ۱۰ سنٹی گریڈ اور یہ ۱۰ ملی گریڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔المَدْرَجَۃ جمع مَدَارِج: افضل یا اعلیٰ تک رسائی کا واسطہ اور ذریعہ۔کہا جاتا ہے ھذا الامر مَدْرَجَۃٌ لھذا۔ یہ اس امر کے لئے واسطہ ہے۔المُدَرَّج: کھلی سیڑھی، گول تماشہ، سامعین (اور ناظرین) کے بیٹھنے کی جگہ، وہ عمارت جہاں لیکچر دیئے جاتے ہیں۔(Lecture Room, auditorium ampli theatre)، سینما سکرین، نصف دائرہ کی شکل کی وسیع عمارت جس میں سیڑھیوں کی طرح درجہ بدرجہ کرسیاں ہوتی ہیں اور سامنے کھیلوں کے لئے میدان ہوتا ہے جسے سٹیڈیم کہتے ہیں۔(Stadium)۔

۳۔دَرَجَ۔دُرُوجًا و دَرَجَانًا القومُ: ختم ہو جانا، مرجانا، کہا جاتا ہے ھو اکذبُ مَنْ دبَّ و دَرَجَ: وہ زندوں اور مردوں میں سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔۔۔ الرجلُ: بے اولاد فوت ہونا۔اَدْرَجَ القومُ: قوم کا

ختم ہونا۔ کہا جاتا ہے ذھب دَمُہٗ دَرَجَ او ادراجَ
الریاح: اس کا خون رائیگاں گیا یعنی انتقام نہ لیا گیا۔
تُرابٌ دَارِجٌ: ہر جگہ پھیلنے والا غبار۔ کہا جاتا ہے۔
قبیلۃٌ دَارِجَۃٌ: بالکل تباہ ہو کر ختم ہو جانے والا قبیلہ۔
۴ دَرَجَ۔ دَرْجًا و دَرَّجَ الثوبَ اوالکتابَ: کپڑے
یا کتاب کو لپیٹنا، تہہ کرنا۔ اَدْرَجَ الثوبَ او الکتابَ:
بمعنی بالا۔ الشیءَ فی الشیءِ: ایک چیز کو دوسری
میں داخل کرنا اور لپیٹنا۔ اِنْدَرَجَ فی کذا: میں داخل
ہونا۔ المَدْرَجُ: لکھنے کا کاغذ۔ کہا جاتا ہے: اَنْفَذْتُہٗ
فی درج الکتاب: میں نے اس کو خط کے ساتھ بھیج
دیا۔ المُدْرَجُ و المُدْرَجَۃ جمع مَدَارِجُ: لپٹی
ہوئی کتاب یا خط، خط لکھنے کا ورق یا کتاب لپیٹنے کا
کاغذ۔ المَدْرَجُ ج مَدَارِجُ: تہ کی ہوئی کتاب یا
خط و رقہ جس پر پیغام لکھا جائے یا جس میں کتاب یا خط
لپیٹا جائے۔

۵ دَرِجَ۔ دَرَجًا: کلام یا دین میں سچائی کے راستے پر جمے
رہنا۔

۶ دُرِّجَ۔ الاَمْرُ: معاملہ کا کسی کو تنگ دل کرنا۔

۷ الدُّرْجُ جمع اَدْرَاجٌ و دِرَجَۃٌ: عورتوں کی خوشبو یا اور
چیزیں رکھنے کی صندوقچی۔ الدَّرْجُ فی القراءۃ روانی
کے ساتھ پڑھنا۔ آپ کہتے ہیں: قَرَأَ دَرْجًا: اس
نے روانی کے ساتھ پڑھا۔ عام لوگ اسے قَرَأَ
کَرْجًا کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ھُو وھم دَرَجُ
یدِكَ: وہ تیرے ہاتھ میں ہے یا ہیں۔ یعنی تمہارے
اشارے پر چلنے والا یا چلنے والے ہیں۔ الدَّرَجُ جمع
اَدْرَاجٌ و دِرَاجٌ: لکھائی کے کام آنے والا کاغذ،
دستہ، دو آدمیوں کے درمیان صلح کے لئے سفیر۔
الدُّرَّجُ: بڑی مشقت کے کام جو انسان کو عاجز کر
دیں۔ کہا جاتا ہے: وقع فی الدُّرَّجِ: وہ بڑی
دشواری کے کام میں پھنس گیا۔ الدَّرُوجُ مِن
الریاح: تیز چلنے والی ہوا۔ الدُّرَّاجُ جمع دراریج
واحد دُرَّاجَۃ: (اس میں تا وحدت کی ہے) (ح)
تیتر، نر و مادہ ہر دو کیلئے یکساں آتا ہے۔ الدَّرَّاجُ: بہت
پھرنے والا۔ ارضٌ مُدْرَجَۃٌ جمع مَدَارِجُ: وہ
زمین جس میں تیتر بکثرت ملیں۔

○ دَرَجَ۔ دُرُوجًا: جانا، چلنا، متحرک ہونا، آگے
بڑھنا (آہستہ آہستہ) ۔ الی: تک بتدریج رسائی کرنا،
قدم بقدم پہنچنا۔ علی: راستہ پر چلنا کے مقررہ راستہ
پر آگے بڑھنا، اسی طرح آگے بڑھنا۔ ـــــ: دور جانا،
چھوڑنا، روانہ ہونا۔ من: عادت وغیرہ ترک کر دینا۔
ـــــ: گزر جانا، ختم ہو جانا، (وقت کا)، مر جانا، ناپید
ہو جانا، رائج ہونا، گردش کرنا، (بچہ کا) بڑا ہونا۔ ـــــ
دَرْجًا ہ: کو لپیٹنا، تہ کرنا۔ ـ ہ علی: کو کے اردگرد
لپیٹنا، باندھنا، بل دینا۔ دَرِجَ۔ دَرَجًا: قدم بقدم
آگے بڑھنا، رفتہ رفتہ یا دھیرے اٹھنا۔ دَرَجَ العُرْفُ
علی: یہ عام بات ہوگئی ہے کہ۔ دَرَّجَ ہ: کو اٹھانا اور
قدم بقدم آگے بڑھانا کو درجہ بدرجہ ترقی دینا۔ ہ
الی: کو بتدریج کے قریب لانا، کو کے قریب کرنا۔
ہ: کو لپیٹنا، تہ کرنا، کو پھیلانا، مشہور کرنا، رائج کرنا، کو
عام دستور بنانا، کو درجوں وغیرہ میں تقسیم کرنا، کی درجہ
بندی کرنا، اونچے درجے میں لیجانا۔ ہ فی: کو میں
داخل کرنا، شامل کرنا، ڈالنا۔ دَارَجَ ہ: (وقت، فیشن
وغیرہ) کے ساتھ چلنا، کا ساتھ دینا، کی رفتار سے چلنا۔
اَدْرَجَ ہ فی: کو میں ڈالنا، شامل کرنا، ضم کرنا، کو پر
مشتمل کرنا، کو فہرست وغیرہ میں درج کرنا، کا فہرست
وغیرہ میں اندراج کرنا۔ ہ: کو محفوظ کرانا۔ تَدَرَّجَ:
دھیرے دھیرے ترقی کرنا، بتدریج آگے بڑھنا۔ الی:
رفتہ رفتہ کی طرف بڑھنا۔ فی: میں ترقی کرنا، درجہ
بندی کرنا، درجہ بند ہونا۔ اِنْدَرَجَ فی: میں ڈلنا، درج
ہونا، شامل ہونا، ضم ہونا۔ فی / تحت: میں یا تحت
ترتیب پانا، درجہ بندی کیا جانا۔ اِسْتَدْرَجَ ہ: کو بتدریج
آگے بڑھانا، بڑھانا، درجہ بدرجہ ترقی دینا۔ ہ الی:
کو بتدریج تک لیجانا۔ کو کا قائل کرنا۔ ہ الی: کو للچانا،
کو ورغلانا، اکسانا ترغیب دینا، یا لالچ دے کر پھنسانا۔
دَرْجٌ: اندراج، اندراج کرنا، رجسٹر میں درج کرنا،
ریکارڈ کرنا، لپیٹنا ہوا یا تہ کیا ہوا کاغذ، کاغذ کا پلندا، لکھے
ہوئے کاغذ کا پلندا۔ فی درج الکتاب: کتاب
میں۔ فی درج الکلام: دوران گفتگو۔ دُرْجٌ جمع
اَدْرَاجٌ: دراز (میز وغیرہ کی) ڈسک (سکول کے بچوں
کیلئے) دَرَجٌ جمع اَدْرَاجٌ: راستہ، زینہ، سیڑھیاں،
رَجَعَ ادراجَہٗ یا عاد ادراجَہٗ: اسی راستہ پر لوٹ جانا
جس سے آیا تھا۔ واپس جانا، مڑ جانا۔ ذھب ادراجَ
الریاح: ہوا کے راستوں پر چلے جانا یعنی نظر آئے بغیر
گزر جانا، کوئی نشان چھوڑے بغیر چلے جانا، ٹائیں
ٹائیں فش ہونا، بے نتیجہ ہونا، لا حاصل ہونا، ناکام رہنا،
کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا، کا کچھ نہ بننا۔ دَرَجَۃ جمع دَرَجَات:
سیڑھی، سیڑھیاں، قدمچہ، سیڑھی، پایہ، درجہ (جیسے
حرارت، ریاضیات، جغرافیہ میں) ڈگری، حکم رتبہ،
درجہ (کلاس ٹرینوں وغیرہ کی) (کسی صورت حال)
کی حالت، کا مرحلہ، دور، نمبر، گریڈ (سکول میں
درجۃ الحرارۃ: درجہ حرارت۔ درجۃ الطول:
طول البلد کا درجہ۔ درجۃ علمیۃ جامعیۃ: جامعاتی
سند (ڈگری) درجۃ العقل: ذہانت کی سطح۔ دفتر
الدرجات: پراگرس رپورٹ (سکول کی طرف سے)
من (فی) الدرجۃ الاولی: درجہ اول کا۔ ذو دَرَجَۃ:
اعلیٰ قسم کا اونچے درجے کا، اونچے طبقہ کا۔ لِدَرَجَۃِ اَن:
کی حد تک، اس حد تک کہ، اس قدر کہ۔ تَدَرُّجٌ و
تَدَرُّجَۃ: تیتر، چکور۔ دَرَّاجَۃ ناریۃ: موٹر سائیکل۔
مَدْرَجٌ جمع مَدَارِجُ: مسلک، راستہ جس پر کوئی
چلے، راستہ، سڑک، پگڈنڈی، راہ، نقطۂ آغاز، شروع،
ابتدا، آغاز، اٹھان ترقی، بالیدگی، نشوونما، پیدائش،
فجر، صبح، تڑکا، شروعات، پکی سڑک طیارے سے ٹیک
تک، رن وے۔ نیز مُدَرَّجٌ: کوئی تماشہ گاہ،
آڈیٹوریم، لیکچر گاہ، سٹیڈیم، کھیلوں کے اجتماعات پر
تماشائیوں کے لئے صف دار نشستوں کے ساتھ ایک
وسیع عمارت کھیل کے میدان میں کھلے بنچ۔ مُنذُ
مَدْرَجِہ: اس کی شروعات سے ہی۔ مَدْرَجُ نَشْاَتِہ
وہ جگہ جہاں وہ بڑا ہوا ساز۔ فی مدارج الرُّقِیّ:
ترقی کے راستہ پر گامزن ہونا۔ علی التدریج: مع
التدریج و بالتدریج بتدریج: کچھ دیر بعد، قدم
بقدم، منزل بمنزل، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، دھیرے
دھیرے۔ تدریجی: بتدریج، درجہ بدرجہ، تدریجی،
تبدریج بڑھنے والا، ترقی پذیر۔ تدریجیاً: بتدریج،
قدم بہ قدم، منزل بہ منزل، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے
مرحلوں میں تَدَرُّجٌ: تدریجی ترقی، ارتقاء، درجہ بندی
بالتَّدَرُّجِ: بتدریج، قدم بہ قدم، منزل بہ منزل، رفتہ
رفتہ، دھیرے دھیرے تدرج ارتقاءہ: اس کا
تدریجی عروج۔ استدراج: کسی کو بتدریج ہموا
بنانے کی صلاحیت، اثر آفرینی، فن ترغیب۔ دارِجٌ:
رواں، جاری، نافذ، مروج، رائج، پھیلا ہوا، دور تک
پھیلا ہوا، عالمگیر، مقبول، ہر دلعزیز، عوامی، روزمرہ کا،
رواج پذیر، گردش میں۔ الکلام الدارج: عوامی
زبان، روزمرہ کی زبان۔ اللغۃ الدارجۃ: عوامی
زبان روزمرہ گفتگو کی زبان۔ مُدَرَّجٌ: درجہ بندی کیا
ہوا جمع مُدَرَّجات: کھلی سیڑھیاں کاغذ کا ٹکڑا، مکان
کے سامنے چبوترا، گول تماشا گاہ، سٹیڈیم مُدْرَجٌ
فی / ب) میں ڈالا ہوا، ضم کیا ہوا، درج کیا ہوا، شامل،
پر مشتمل۔

درح: دَرَحَ۔ دَرْحًا ہٗ: کو دفعہ کرنا، دور کرنا، ہٹانا، دَرِحَ
۔ دَرَحًا: بوڑھا ہونا، صفت دَرِحٌ (مذکر و مؤنث)
۔ المَدْرَحِیَّۃ: مادیت اور روحیت سے ماخوذ ہے اور
ان دو عقیدوں کے امتزاج سے کنایہ ہے یعنی خالق اور
خلق اور انسانی رویہ میں مادی عوامل کی تاثیر کا اعتقاد۔

درد: ۱۔ دَرِدَ ۔ دَرَدًا: غضبناک ہونا صفت دَرِد، بے دانتوں کا ہونا، صفت اَدْرَد مؤنث دَرْدَاء جمع دُرْد۔ اَدْرَدَہٗ: کے دانتوں کو گرانا۔ اسنانَہٗ: کو پوپلا کر دینا۔ الدُرْد (ح): اگلے دانتوں کے بغیر تھن دار جانور جن کے ناخن زمین کھودنے میں مدد دیتے ہیں جیسے چیونٹی خور۔ الدُرْدِیّ من الزیت ونحوہ: تلچھٹ۔

۲۔ دَرْدَبَ الرجلُ: خوف زدہ کی طرح بھاگنا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا جیسے توقع ہو کہ اس کے پیچھے کچھ ہے۔ امراۃ دَرْدَب رات میں آنے جانے والی عورت۔

۳۔ الدَرْدَبِیس: مصیبت، بوڑھا یا بوڑھی، بہت بوڑھی عورت۔

۴۔ دَرْدَرَ الشیخُ او الصبیُّ البُسْرَۃَ: آہستہ آہستہ کھجور چبانا۔ الدُرْدُر جمع دَرَادِر بچہ کے دانت نکلنے کی جگہیں۔ الدرْدار ڈھول کی آواز۔ ــ او الدُرّان (ن) ایک زرد پھولوں اور خار دار پتوں والا بڑا درخت۔ الدُرْدُود بھنور۔

○ دَرِدَ ۔ دَرَدًا پوپلا ہو جانا، کے دانت نکل جانا۔ اَدْرَد: پوپلا۔ دُرْدِی گاد، درد، تلچھٹ، ریزہ، فضلہ، دَرْدَبِیس بدصورت بوڑھی عورت، بوڑھی عورت، چڑیل، ڈائن۔

○ دَرْدَرَۃ: پانی کا شور، چہچہا، طفلانہ گفتگو، ہرزہ سرائی۔ دُرْدُوْر: گرداب، بھنور، ورطہ، چکر

○ دَرْدَشَۃ: طفلانہ گفتگو، ہرزہ سرائی، بے کار باتیں۔

درز: ۱۔ دَرِزَ ۔ دَرَزًا دنیا کی نعمتوں اور لذتوں پر قادر ہونا۔ الدَرْز جمع دُرُوز: دنیا کی نعمتیں اور لذتیں۔ اُم دَرْزَۃ: دنیا (کی کنیت)

۲۔ دَرَزَ ۔ دَرْزًا الثوبَ: کپڑا باریک سینا۔ ــ الخیّاطُ الدُرُوزَ: درزی کا سیون کو باریک سینا۔ الدَرْز (مص) جمع دُرُوز: مغزی، گوٹ، سیون۔ اولاد دَرْزَۃ: درزی لوگ، جولاہے۔ الدَرْزِی درزی۔

۳۔ بناتُ الدُرُوز: جوئیں اور ان کے انڈے۔ اولادُ دَرْزۃ: کمینے لوگ۔ الدُرْزِی و الدَرَزِیّ جمع دَرَزَۃ نیز دُرُوز دُرْزِیۃ نامی جماعت سے منسوب۔

○ دَرَزَ سینا، ٹانکے لگانا، بخیہ کرنا۔ دَرْز جمع دُرُوز: سیون، گوٹ، مغزی، سنجاف، سلائی۔ دُرْزِیّ جمع دُرُوز: دُرُوز: فرقہ دروز، لبنان کے قریب مسلمانوں کا ایک مذہبی فرقہ جس کا بانی اسمٰعیل الدروزی تھا۔ جبل الدروز: جنوبی شام میں دروزیوں کا پہاڑی وطن۔

درس: دَرَسَ ۔ دُرُوْسًا الرسمُ: نشان مٹنا، صفت: دارِس جمع دَوَارِس۔ ــ الشیءُ: کا اثر جاتا رہنا۔ دَرَسًا الرسمَ: نشان کو مٹا دینا۔ الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ دَرَسَ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہو جانا۔ اِنْدَرَسَ الرسمُ: نشان کا مٹنا۔ الخبرُ: خبر ناپید ہونا۔ الدَرْس (مص) جمع دُرُوس: پوشیدہ راستہ۔ ــ و الدِرْس جمع اَدْرَاس و دِرْسَان و الدَرِیس: بوسیدہ کپڑا۔ المَدْرُوس (مفع): بوسیدہ کپڑا۔

۲۔ دَرَسَ ۔ دَرْسًا الناقۃَ: اونٹنی کو سدھانا۔ دَرَّسَ البعیرَ: اونٹ کو سدھانا۔ الدُرْسَۃ: ریاضت، ورزش

۳۔ دَرَسَ ۔ دَرْسًا و دِرَاسَۃً الکتابَ او العلمَ: کتاب یا علم کو یاد کرنے کیلئے متوجہ ہونا۔ دَرَّسَ و اَدْرَسَ ہُ الکتابَ: کو کتاب پڑھانا۔ دَارَسَ مُدَارَسَۃً و دِرَاسًا الکتبَ: کتابیں پڑھنا۔ ہٗ: ایک دوسرے کو پڑھ کر سنانا، باہم پڑھنا۔ تَدَارَسَ الطلبۃُ الکتابَ: طلبہ کا کتاب مل کر پڑھنا۔ کہا جاتا ہے۔ تَدَارَسَ الکتابَ و اِدَّارَسَہٗ: اس نے کتاب پڑھی۔ دُرُوسُ الأشیاء: انسانی جسم، حیوانات، نباتات، آلات، معدنوں، پانی، ہوا وغیرہ کے مطالعے۔

الدَرّاس: بہت پڑھنے والا۔ المَدْرَسۃ طلبہ کے تعلیم پانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ ھذہ مدرسۃُ النِعم: یہ نعمتوں کا راستہ ہے۔ المِدْرَس: پڑھنے کی کتاب، پڑھنے کی جگہ۔ المِدْرَاس: تورات پڑھنے کی جگہ (گھر)۔

۴۔ دَرَسَ ۔ دَرْسًا و دِرَاسًا الحنطۃَ: گیہوں کو گاہنا، الدَرْس (مص) جمع دُرُوس: سبق طریقٌ مَدْرُوس: چلتا ہوا راستہ۔ فراشٌ مَدْرُوسٌ: بچھا ہوا فرش۔

۵۔ دَارَسَ مُدَارَسَۃً و دِرَاسًا الذنوبَ: گناہوں کا ارتکاب کرنا۔

۶۔ الدَرْس و الدِرْسُ جمع اَدْرَاس و دِرْسان و الدَرِیس: اونٹ کی دم۔ المَدْرُوس: مجنوں۔

○ دَرَسَ ۔ دَرْسًا ہ: کو مٹانا، دھو ڈالنا، کا نام و نشان مٹا ڈالنا، کو محو کرنا، ختم کرنا، (گندم وغیرہ) کو گاہنا۔ ہ علی: سے کچھ سیکھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا۔ درس العلمَ: کسی استاد یا پروفیسر سے علم سیکھنا۔ دُرُوسًا: مٹنا، محو ہونا، نام و نشان مٹنا، ختم ہونا۔

دَرَّسَ: تعلیم دینا۔ ہ ہ: کو کی تعلیم دینا، کو کچھ پڑھانا۔ دَارَسَ ہ: کے ساتھ مل کر پڑھنا، مطالعہ کرنا، تَدَارَسَ ہ: باہم کسی چیز کا احتیاط سے مطالعہ کرنا۔ اِنْدَرَسَ: مٹ جانا، محو ہو جانا، نام و نشان نہ رہنا، ختم ہو جانا۔ دَرْس مٹانا، محو کرنا، نام و نشان مٹانا، ناپید ہو جانا، جمع دُرُوس: مطالعہ، مطالعے، سبق (نصابی کتاب کا) باب، جماعت، جماعت کا وقت، عرصہ، مدت، وقت، لیکچر، (تجربہ کا دیا ہوا) سبق، اَلْقَی دُرُوسًا عن: پر لیکچر دینا۔ اعطی دروسًا: سبق دینا۔ دُرُوسٌ مَنْزِلِیَّۃ: طالب علم کا گھر پر کرنے کا کام۔ ہوم ورک۔ دِرَاس: (گندم وغیرہ) کا ہنا۔ دِرَاسۃ جمع دِرَاسات: مطالعہ۔ دراسۃ عالیۃ: کالج کے مطالعے۔ دراسۃ ثانویۃ: ثانوی مدرسہ میں حاضری، ثانوی تعلیم، ہائی سکول کی تعلیم۔ دِراسۃ متوسطۃ: ثانوی تعلیم، ہائی سکول کی تعلیم، دِرَاسی: مطالعہ یا مطالعوں کے متعلق، مدرسی، مکتبی، تعلیمی، سکول کی، درسی، تربیتی، پڑھائی کے متعلق، اتالیقی۔ رسوم دراسیۃ: ٹیوشن فیس۔ سنۃ دراسیۃ: تعلیمی سال۔ دَرِیس: خشک کیا ہوا ترفل، عُمّالُ الدَرِیسَۃ: ریلوے سیکشن پر کام کرنے والے۔ دَرّاس جمع دَرّاسُون: (سرگرم) طالب علم۔ دَرّاسَۃ: بالی سے اناج نکالنے کا آلہ، غلہ کوب، وہ لکڑی جس سے کٹے ہوئے پودوں کو پیٹ کر اناج الگ کرتے ہیں، گاہنے کی مشین۔ حَصّادۃ دَرّاسَۃ: فصل کاٹنے اور گاہنے کی مشین۔ دِرْوَاس: ایک قسم کا بڑا کتا جس کے ہونٹ اور کان لٹکتے رہتے ہیں۔ مَدْرَسَۃ: جمع مَدَارِس۔ (مذہبی) مدرسہ، سکول۔ ــ ابتدائیۃ: جونیئر ہائی سکول۔ ــ اَوّلِیَّۃ: بنیادی سکول، گریڈ سکول۔ ــ ثانویۃ: ثانوی سکول، ہائی سکول ــ تِجَارِیۃ: تجارتی کالج یا سکول۔ ــ حربیۃ: عسکری درسگاہ۔ ــ داخلیۃ: بورڈنگ سکول۔ ــ عالیۃ (عُلیا) کالج۔ مدرسۃ الفنون و الصنائع: صنعتی فنون کا سکول، عملی فن اور دستکاری کا سکول۔ مدرسۃ کُبْرٰی: کالج۔ المدرسۃ القدیمۃ: دینی یا فنکارانہ تحریک۔ تَدْرِیس: پڑھانا، تعلیم دینا، ہَیْئَۃُ التدریس: ٹیچنگ سٹاف، اساتذہ، معلمین (تعلیمی ادارہ کا) شعبہ، پروفیسر حضرات۔ دَارِس جمع دَوَارِس: مٹا ہوا، محو شدہ، نام و نشان مٹا ہوا، قدیم، پرانا، شکستہ ٹوٹا پھوٹا، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے (ہونے والا) تَجَدَّدَ دَارِسُہٗ: دوبارہ جی اٹھنا۔ مُدَرِّس جمع مُدَرِّسُون: مدرس، ٹیچر، معلم، انسٹرکٹر، لیکچرار۔ مُدَرِّسٌ مساعِد: معاون پروفیسر۔

درص: دَرِصَ ۔ دَرَصًا ت الناقۃُ: اونٹنی کا بڑھاپے کے سبب ٹوٹے ہوئے دانتوں والی ہونا، صفت: دَرْصاء الدَرْص و الدِرْصُ جمع اَدْرَاص و دِرَصَۃ و دِرْصَان و دُرُوص و اَدْرُص (ح): چوہے، بلی، خرگوش وغیرہ کا بچہ۔ الدَرِص و الدَرُوص (ح) تیز رفتار اونٹنی۔ اُمّ اَدْرَاص (ح): جنگلی چوہا، بلا (کہا جاتا ہے۔ وقعوا فی اُمّ ادراص: وہ ہلاکت میں پڑ

درد: ۱۔ دَرِدَ ـ دَرَدًا: غضبناک ہونا صفت دَرِدٌ، بے دانتوں کا ہونا، صفت اَدْرَد مؤنث دَرْدَاء جمع دُرْد۔ اَدْرَدَهٗ: کے دانتوں کو گرانا۔ اسنانَهٗ: کو پوپلا کر دینا۔ الدُرْد (ح): اگلے دانتوں کے بغیر تھن دار جانور جن کے ناخن زمین کھودنے میں مدد دیتے ہیں جیسے چیونٹی خور۔ الدُرْدِیّ من الزیت ونحوه: تلچھٹ۔

۲۔ دَرْدَبَ الرجلُ: خوف زدہ کی طرح بھاگنا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا جیسے توقع ہو کہ اس کے پیچھے کچھ ہے۔ امرأة دَرْدَب: رات میں آنے جانے والی عورت۔

۳۔ الدَرْدَبِیس: مصیبت، بوڑھا یا بوڑھی، بہت بوڑھی عورت۔

۴۔ دَرْدَرَ الشیخُ او الصبیُّ البُسْرَةَ: آہستہ آہستہ کھجور چبانا۔ الدُرْدُر جمع دَرَادِر: بچہ کے دانت نکلنے کی جگہیں۔ الدَرْدَار: ڈھول کی آواز۔ — او الدُرَّان (ن): ایک زرد پھولوں اور خار دار پتوں والا بڑا درخت۔ الدُرْدُود: بھنور۔

○ دَرِدَ ـ دَرَدًا: پوپلا ہو جانا، کے دانت نکل جانا۔ اَدْرَد: پوپلا۔ دُرْدِی: گاد، درد، تلچھٹ، ریزہ، فضلہ، دَرْدَبِیس: بدصورت بوڑھی عورت، بوڑھی عورت، چڑیل، ڈائن۔

○ دَرْدَرَة: پانی کا شور، چھپٹ، طفلانہ گفتگو، ہرزہ سرائی۔ دُرْدُوْر: گرداب، بھنور، ورطہ، چکر

○ دَرْدَشَة: طفلانہ گفتگو، ہرزہ سرائی، بے کار باتیں۔

درز: ۱۔ دَرِزَ ـ دَرَزًا: دنیا کی نعمتوں اور لذتوں پر قادر ہونا۔ الدَرْز جمع دُرُوز: دنیا کی نعمتیں اور لذتیں۔ اُم دَرْزَة: دنیا (کی کنیت)

۲۔ دَرَزَ ـ دَرْزًا الثوبَ: کپڑا باریک سینا۔ — الخیّاطُ الدُرُوزَ: درزی کا سیون کو باریک سینا۔ الدَرْز (مص) جمع دُرُوز: مغزی، گوٹ، سیون۔ اولاد دَرْزَة: درزی لوگ، جولاہے۔ الدَرْزِی: درزی۔

۳۔ بناتُ الدُرُوز: جوئیں اور ان کے انڈے۔ اولادُ دَرْزَةٍ: کمینے لوگ۔ الدُرْزِی و الدَرْزِیّ جمع دَرْزَة نیز دُرُوز دُرْزِیة نامی جماعت سے منسوب۔

○ دَرَزَ: سینا، ٹانکے لگانا، بخیہ کرنا۔ دَرْز جمع دُرُوز: سیون، گوٹ، مغزی، سنجاف، سلائی۔ دُرْزِیّ جمع دُرُوز: فرقہ دروز، لبنان کے قریب مسلمانوں کا ایک مذہبی فرقہ جس کا بانی اسمٰعیل الدردزی تھا۔ جبل الدروز: جنوبی شام میں دروزیوں کا پہاڑی وطن۔

درس: دَرَسَ ـ دُرُوْسًا الرسمُ: نشان مٹنا، صفت: دارِس جمع دَوَارِس۔ — الشیءُ: کا اثر جاتا رہنا۔ دَرْسًا الرسمَ: نشان کو مٹا دینا۔ الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ دَرَسَ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہو جانا۔ اِنْدَرَسَ الرسمُ: نشان کا مٹنا۔ الخبرُ: خبر ناپید ہونا۔ الدَرْس (مص) جمع دُرُوس: پوشیدہ راستہ۔ — والدِرْس جمع اَدْرَاس و دِرْسَان والدَرِیس: بوسیدہ کپڑا۔ المَدْرُوس (مفع): بوسیدہ کپڑا۔

۲۔ دَرَسَ ـ دَرْسًا الناقةَ: اونٹنی کو سدھانا۔ دَرَّسَ البعیرَ: اونٹ کو سدھانا۔ الدُرْسَة: ریاضت، ورزش

۳۔ دَرَسَ ـ دَرْسًا و دِرَاسةً الکتابَ او العلمَ: کتاب یا علم کو یاد کرنے کیلئے متوجہ ہونا۔ دَرَّسَ و اَدْرَسَ هٗ الکتابَ: کو کتاب پڑھانا۔ دَارَسَ مُدَارَسَةً و دِرَاسًا الکتبَ: کتابیں پڑھنا۔ هٗ: ایک دوسرے کو پڑھ کر سنانا، باہم پڑھنا۔ تَدَارَسَ الطلبةُ الکتابَ: طلبہ کا کتاب مل کر پڑھنا۔ کہا جاتا ہے۔ تَدَارَسَ الکتابَ و اِدَّارَسَهٗ: اس نے کتاب پڑھی۔ دُرُوسُ الأشیاء: انسانی جسم، حیوانات، نباتات، آلات، معدنوں، پانی، ہوا وغیرہ کے مطالعے۔

الدَرَّاس: بہت پڑھنے والا۔ المَدْرَسة: طلبہ کے تعلیم پانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ هذه مدرسةُ النعم: یہ نعمتوں کا راستہ ہے۔ المِدْرَس: پڑھنے کی کتاب، پڑھنے کی جگہ۔ المِدْرَاس: تورات پڑھنے کی جگہ (گھر)۔

۴۔ دَرَسَ ـ دَرْسًا و دِرَاسًا الحِنطةَ: گیہوں کو گاہنا، الدَرْس (مص) جمع دُرُوس: سبق طریقٌ مَدْرُوس: چلتا ہوا راستہ۔ فراشٌ مَدْرُوسٌ: بچھا ہوا فرش۔

۵۔ دَارَسَ مُدَارَسَةً و دِرَاسًا الذنوبَ: گناہوں کا ارتکاب کرنا۔

۶۔ الدَرْس والدِرْسُ جمع اَدْرَاس و دِرْسان و الدَرِیس: اونٹ کی دم۔ المَدْرُوس: مجنوں۔

○ دَرَسَ ـ دَرْسًا ہ: کو مٹانا، دھو ڈالنا، کا نام و نشان مٹا ڈالنا، کو محو کرنا، ختم کرنا، (گندم وغیرہ) کو گاہنا۔ ہ علی: سے کچھ سیکھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا۔ درس العلمَ: کسی استاد یا پروفیسر سے علم سیکھنا۔ ـ دُرُوسًا: مٹنا، محو ہونا، نام و نشان مٹنا، ختم ہونا۔

دَرَّسَ: تعلیم دینا۔ — ہ ہ: کو کسی تعلیم دینا، کو کچھ پڑھانا۔ دَارَسَ ہ: کے ساتھ مل کر پڑھنا، مطالعہ کرنا، تَدَارَسَ ہ: باہم کسی چیز کا احتیاط سے مطالعہ کرنا۔ اِنْدَرَسَ: مٹ جانا، محو ہو جانا، نام و نشان نہ رہنا، ختم ہو جانا۔ دَرْس: مٹانا، محو کرنا، نام و نشان مٹانا، ناپید ہو جانا، جمع دُرُوس: مطالعہ، مطالعے، سبق (نصابی کتاب کا) باب، جماعت، جماعت کا وقت، عرصہ، مدت، وقت، لیکچر، (تجربہ کا دیا ہوا) سبق، اَلْقَى دُرُوسًا عن: پر لیکچر دینا۔ اعطی دروسًا: سبق دینا۔ دُرُوسٌ مَنْزِلِیَّة: طالب علم کا گھر پر کرنے کا کام۔ ہوم ورک۔ دِرَاس: (گندم وغیرہ) گاہنا۔ دِرَاسة جمع دِرَاسات: مطالعہ۔ دراسة عالیة: کالج کے مطالعے۔ دراسة ثانویة: ثانوی مدرسہ میں حاضری، ثانوی تعلیم، ہائی سکول کی تعلیم۔ دِراسة متوسطة: ثانوی تعلیم، ہائی سکول کی تعلیم، دِرَاسی: مطالعہ یا مطالعوں کے متعلق، مدرسی، مکتبی، تعلیمی، سکول کی، درسی، تربیتی، پڑھائی کے متعلق، اتالیقی۔ رسوم دراسیة: ٹیوشن فیس۔ سنة دراسیة: تعلیمی سال۔ دَرِیس: خشک کیا ہوا ترفل، عُمَّالُ الدَرِیْسَة: ریلوے سیکشن پر کام کرنے والے۔ دَرَّاس جمع دَرَّاسُون: (سرگرم) طالب علم۔ دَرَّاسة: بالی سے اناج نکالنے کا آلہ، غلہ کوب، وہ لکڑی جس سے کٹے ہوئے پودوں کو پیٹ کر اناج الگ کرتے ہیں، گاہنے کی مشین۔ حَصَّادَة دَرَّاسَة: فصل کاٹنے اور گاہنے کی مشین۔ ہِرْوَاس: ایک قسم کا بڑا کتا جس کے ہونٹ اور کان لٹکتے رہتے ہیں۔ مَدْرَسَة: جمع مَدَارِس۔ (مذہبی) مدرسہ، سکول۔ — ابتدائیة: جونیئر ہائی سکول۔ — اَوَّلِیَّة: بنیادی سکول، گریڈ سکول۔ — ثانویة: ثانوی سکول، ہائی سکول — تِجَارِیة: تجارتی کالج یا سکول۔ — حربیة: عسکری درسگاہ۔ — داخلیة: بورڈنگ سکول۔ — عالیة (عُلیا) کالج۔ مدرسة الفنون و الصنائع: صنعتی فنون کا سکول، عملی فن اور دستکاری کا سکول۔ مدرسة کُبْرَی: کالج۔ المدرسة القدیمة: دینی یا فنکارانہ تحریک۔ تَدْرِیس: پڑھانا، تعلیم دینا، هَیْئَةُ التدریس: ٹیچنگ سٹاف، اساتذہ، معلمین (تعلیمی ادارہ کا) شعبہ، پروفیسر حضرات۔ دَارِس جمع دَوَارِس: مٹا ہوا، محو شدہ، نام و نشان مٹا ہوا، قدیم، پرانا، شکستہ ٹوٹا پھوٹا، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے (ہونے والا) تَجَدَّدَ دَارِسُهٗ: دوبارہ جی اٹھنا۔ مُدَرِّس جمع مُدَرِّسُون: مدرس، ٹیچر، معلم، انسٹرکٹر، لیکچرار۔ مُدَرِّسٌ مساعِد: معاون پروفیسر۔

درص: دَرِصَ ـ دَرَصًاتِ الناقةُ: اونٹنی کا بڑھاپے کے سبب ٹوٹے ہوئے دانتوں والی ہونا، صفت: دَرْصَاء۔ الدَرْص والدِرْصُ جمع اَدْرَاص و دِرَصَة و دِرْصَان و دُرُوص و اَدْرُص (ح): چوہے، بلی، خرگوش وغیرہ کا بچہ۔ الدَرِص و الدَرُوص (ح) تیز رفتار اونٹنی۔ اُمّ اَدْرَاص (ح): جنگلی چوہا، بلا (کہا جاتا ہے۔ وقعوا فی اُمّ اَدْرَاص: وہ ہلاکت میں پڑ

گئے۔) مصیبت۔

درع: ادرع۔ درعا الفرس وغیرہ: گھوڑے وغیرہ کا کالے سر اور سفید بدن ہونا صفت ادرع مؤنث درعاء جمع درع۔ ادرع الشہر: مہینے کا آدھے حصہ سے گذر جانا۔ الدرع و الدرع: قمری مہینہ کی سولہویں، سترہویں اور اٹھارویں راتیں۔ الدرعاء جمع درع من اللیالی: وہ راتیں جن میں چاند صبح کے وقت نکلتا ہے۔

۲۔درع۔ درعا الشاۃ: بکری کی کھال اس کی گردن کی طرف سے اتارنا۔ الرقبۃ او الید: گردن یا ہاتھ کا جوڑ اکھاڑنا۔ اندرع العظم: ہڈی کا گوشت سے جدا ہونا۔

۳۔درع الزرع: کھیتی کا کچھ حصہ کھالیا جانا۔ ــ الماء: پانی کے قریب کی ہر شے کو کھا لیا جانا۔ ادرع الماء: پانی کے قریب ہر چیز کا کھالیا جانا۔ ماء مدرع و مدرع: پانی جس کے ادر گرد کی چراگاہ چر لی گئی ہو۔ روضۃ مدرعۃ: وہ باغ جس کے ارد گرد کو کھالیا گیا ہو۔

۴۔درع ہ: کو زرہ پہنانا۔ ــ المراۃ: عورت کو قمیص پہنانا۔ ادرع و ادرع: زرہ پہننا۔ ــ اللیل: رات کی تاریکی میں داخل ہونا اور اسے اپنا پردہ بنانا۔ کسی چیز کے اندر کوئی چیز داخل کرنا۔ تدرع: زرہ پہننا۔ اندرع البطن: پیٹ کا بھرنا۔ الدرع جمع دروع و ادرع و دراع تصغیر دریع: زرہ (مؤنث ہے کبھی مذکر بھی مستعمل ہوتی ہے۔) چھوٹا کپڑا جو کمسن بچی گھر میں پہنتی ہے۔ درع المراء جمع ادراع: عورت کی قمیص یا کپڑا جو گھر میں پہنے (مذکر ہے۔) الدارع (فا): زرہ پوش۔ الدارعۃ (دارع کا مؤنث) جمع دوارع (اع): فولادی جنگی جہاز۔ الدرعۃ جمع درع: چھلکے کی طرح ایک چیز جس کو درخت خرما کے ارد گرد لگا دیا جاتا ہے۔ المدرعۃ عند الیہود: علمائے یہود کے پہننے کا ایک کتانی کپڑا۔ المدرع (ح): ہڈی کے خول والا ایک قسم کا جانور۔ المدرعۃ (ع): فولادی جنگی جہاز۔ الدراعۃ جمع دراریع و المدرعۃ جمع مدارع: آگے سے کھلنے والا جبہ۔ الدرعیۃ جمع دراعی: زرہ کو چھیدنے والا نیزہ۔

۵۔درع ہ: کا گلا گھونٹنا۔ الشیء: کو ظاہر کرنا۔

۶۔درع الرجل: چلنے میں آگے بڑھنا۔ اندرع فی السیر: چلنے میں آگے بڑھنا۔ اندرع یفعل کذا: وہ ایسا کرنے لگا۔ القمر من السحاب: چاند کا بادل سے باہر نکل آنا۔

۷۔الدرع من العشب: تازہ گھاس۔

○ درع: مسلح کرنا۔ ہ کو بکتر بند کرنا، کو بکتر سے مسلح کرنا۔ تدرع و ادرع: مسلح ہونا، زرہ بکتر پہننا۔ درع مذکر، مؤنث جمع دروع و ادرع و ادراع: زرہ، زرہ بکتر جوشن، چار آئینہ، اسلحہ، ہتھیار، (جمع ادراع) عورتوں کا زیر جامہ۔ دراعۃ جمع دراعات: بکتر بند جنگی جہاز۔ دراعۃ جمع دراریع: باہر کا ڈھیلا جبہ جو سامنے سے چاک ہو۔ دارع: زرہ پوش، آہن پوش، بکتر بند۔ دارعۃ جمع دوارع: بکتر بند جنگی جہاز۔ مدرع: بکتر بند، جنوبی امریکہ کا ایک جانور جس پر ہڈی کا خول ہوتا ہے۔ قوۃ مدرعۃ: ٹینک دستہ یا رسالہ۔ سیارۃ مدرعۃ: بکتر بند گاڑی۔ مشاۃ مدرعون: بکتر بند پیدل فوج۔ مدرعۃ جمع مدرعات: بکتر بند جنگی جہاز۔ فولادی جنگی جہاز۔

درف: ۱۔الدرف: سایہ، پناہ، جانب۔ الدرفۃ: دروازے کا ایک پٹ (عوامی زبان میں فصیح الصفق ہے۔)

۲۔درفق و ادرنفق فی سیرہ: تیز چلنا۔

○ درف: جانب، بازو، حفاظت۔ درفۃ کھڑکی یا دروازے کا ایک پٹ۔

○ درفیل: ڈالفن (ایک قسم کی مچھلی)

درق: ادرق۔ درقا فی المشی: تیز چلنا۔ درق ہ: کو نرم و ملائم کرنا۔ الدرق: ہر سخت چیز۔ الدرقۃ جمع درق: چمڑے کی ڈھال۔ الدورق جمع دوارق: دو دستے والا بڑا لوٹا (فارسی لفظ) عابدوں اور زاہدوں کے پہننے کی ٹوپی اور پہننے والوں کو دورقیون کہا جاتا ہے۔ الدراق واحد دراقۃ (ن): میوہ کا ایک درخت جس کا گودا مزیدار ہوتا ہے۔ اس پر ایک مخملی باریک چھلکا ہوتا ہے۔ اسے الدراقن بھی کہا جاتا ہے۔ اس درخت کا پھل۔ شراب۔ الدریاق: تریاق۔ الدرقاء: بادل۔

۲۔درقل الرجل: تیزی سے گزرنا، رقص کرنا، ناچنا، ناز سے چلنا۔ الدرقل: ریشمی کپڑا۔

○ درقۃ: (چمڑے کی) ڈھال۔ درق: سپری۔ غدہ، سپر نما غدہ (Thyroid gland) درقی: ڈھال کی شکل کا، ڈھال کا سا۔ الغدۃ الدرقیہ: سپری غدہ، سپر نما غدہ۔

○ دراق: آڑو، شفتالو، آڑو کا درخت۔

درك: ۱۔درك المطر: بارش کا پے در پے برسنا۔ دارك مدارکۃ و دراکا ہ: سے لاحق ہونا، جاملنا۔ ــ الطعن: پے در پے نیزہ مارنا۔ ــ الشیء: ایک کو دوسرے کے پیچھے کرنا۔ یکے بعد دیگر کرنا۔ ادرك الشیء: سے مل جانا، لاحق ہونا۔ تدارك القوم: ایک کا دوسرے سے آملنا۔ اسی معنی میں ادارك بھی ہے۔ ــ الخطأ بالصواب: غلطی کی درستی کرنا (کہا جاتا ہے تدارکہ اللہ برحمتہ: اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لے)۔ ــ مافات: ہاتھ سے نکلی ہوئی بات کی تلافی کرنا۔ کہا جاتا ہے تدارك القوم: اس نے قوم کی تلافی کی۔ ادرك ہ: سے جاملنا، لاحق ہونا۔ استدرك الشیء بالشیء: ایک چیز کو دوسری چیز کے ذریعے حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے استدرك النجاۃ بالفرار: اس نے بھاگ کر نجات حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ الخطأ بالصواب: غلطی کی درستی اور اصلاح کرنا۔ ــ مافات: ہاتھ سے نکلی ہوئی بات کی تلافی کرنا۔ علیہ القول: کسی کی بات میں غلطی نکالنا۔ الدرك و الدرك: چیز کی انتہائی گہرائی (کہا جاتا ہے: بلغ الغواص درك البحر: غوطہ خور سمندر کی انتہائی گہرائی میں پہنچا۔) لاحق ہونا۔ (کہا جاتا ہے فرس درك الطریدۃ: بھاگے ہوئے جانور تک پہنچنے والا گھوڑا) تاوان۔ کہا جاتا ہے۔ مالحقك من درك فعلی خلاصہ: جو تاوان تم پر قائم ہو اس اور س کا ذمہ دار میں ہوں۔ دراك: اسم فعل بمعنی: ادرك۔ الدراك: متصل۔ کہا جاتا ہے سیر دراك: جاری سیر۔ الدرکۃ جمع درکات: درجہ۔ درکہ اور درجہ میں فرق یہ ہے تنزلی کی صورت میں درکہ بولتے ہیں اور ترقی کے موقعہ پر درجہ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے الجنۃ دراجات و النار درکات: جنت ترقی کے مدارج اور جہنم نیچے سے نیچے جانے سے عبارت ہے۔ الدریکۃ: بھگائی ہوئی۔ الاستدراك (مص): پچھلی گفتگو سے پیدا شدہ وہم کا ازالہ۔

۲۔ادرك الشیء: چیز کا اپنے وقت پر پہنچنا۔ الثمر: پھل کا پکنا۔ الولد: لڑکے کا بالغ ہونا۔

۳۔ادرك المسالۃ: مسئلہ کو جان لینا۔ الشیء ببصرہ: چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ الادراك (مص): قوت مدرکہ، ادراک کی قوت۔ الدراك: مرغوب چیز کو پالینے والا۔ رجل مدرکۃ: تیز ادراک والا۔ تاء مبالغہ کی ہے۔ تانیث کی نہیں۔ المدرکات و المدارك: حواس خمسہ۔ مدارك الشرع: ایسے مقامات جہاں سے احکامات شرعیہ کا پتہ چلے اور نصوص سے استدلال کیا جائے۔

۴۔ادرك بثارہ: خون کا بدلہ لے لینا۔ الدرك و الدرك: حاجت پانا۔

۵- رِجَالُ الدَّرَكِ: فوجی قوت جن کے سپرد امن عامہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسے جندرمہ کہا جاتا ہے۔ ایک کو دَرَكِيّ کہا جاتا ہے۔ اور دَرَكِيّ بھی۔

۶- الدَّرْبُكَة: بھیڑ، انبوہ- الدَّرَابُكَّة (مو): ایک قسم کا باجہ۔ اسے دِرْبُكَّة بھی کہا جاتا ہے۔

○ درک: بارش کا برستا رہنا- دَارَكَ ہ/ہ: تک جا پہنچنا، کو جا پکڑنا، حاصل کر لینا، کو جا لینا، پہنچ کر پکڑ لینا، سے بہت آگے نکل جانا، دوڑ میں دوسرے سے آگے نکل جانا، کے برابر ہو جانا- ہ: برقرار رکھنا، اسی طرح جاری رکھنا- اَدْرَكَ ہ: کو حاصل کرنا، تک پہنچنا، (کسی جگہ) پہنچنا- ہ/ہ: کو پانا، پکڑنا، کو جا لینا، کو جا پکڑنا، کے برابر ہونا- ہ: کو اچانک، اتفاقاً پا لینا (موت کا) کسی کو آ لینا- ہ: کو حاصل کرنا، کو سمجھنا، پوری طرح سمجھنا، کا ادراک کرنا، کو دیکھنا، سمجھنا سے واقف ہونا، آگاہ ہونا، باخبر ہونا- : (پھل وغیرہ کا) پکنا، لڑکے کا بالغ ہونا- تَدَرَكَتِ الشَّمسُ الى المَغيب: سورج ڈوبنے کے لئے تیار ہوا- تَدَارَكَ: ایک دوسرے تک پہنچ کر پکڑنا، کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہنا، مسلسل، یا پے در پے کرتے رہنا- ہ: کے سامنے ہونا، کی رقم ادا کرنا، کو دور کرنا، کو روکنے کے اقدامات کرنا، کو ترتیب سے رکھنا، ٹھیک کرنا، درست کرنا، کی تلافی کرنا، (نقصان وغیرہ) کی تلافی کرنا، کا معاوضہ ادا کرنا، کر ہرجانہ یا تاوان دینا- اِسْتَدْرَكَ ہ: کی تصحیح کرنا، کو ٹھیک کرنا، ترتیب سے رکھنا، سیدھا کرنا، نقصان، غلطی وغیرہ) کی تلافی کرنا، کا ازالہ کرنا، کا معاوضہ ادا کرنا، (گم شدہ، چیز) مہیا کرنا، (واقعہ) کی پیش بندی کرنا، دور کرنا- دَرَكَ: حصول، تحصیل، کامیابی، تکمیل، سرانجام دہی، جا پکڑنا، پولیس (جمع اَدْرَاك): تہ، پیندا، نچی ترین سطح- دَرَكِيّ: پولیس مین، سپاہی، دَرَكَة: نچی ترین سطح، جمع درکات: اترتے قدمچے- جیسے دَرَكَاتُ الموت- دَرَّاك: بہت زیادہ تکمیل کرنے والا، کامیاب، قابل، لائق، کارگزار- مَدَارِكَ: ذہنی صلاحیتیں، دماغی قوتیں، ذہانت، عقلی صلاحیتیں، ادراک، بصیرت، نکتہ- المدارك الخمس: حواس خمسہ- دِرَاكًا: اکثر، ہمیشہ، مسلسل، لگاتار، پے در پے، بلا رکاوٹ- اِدْرَاك: پہنچنا، حصول، کامیابی، تکمیل، احساس، ادراک، بصیرت، نکتہ رسی، فہم، آگہی، واقفیت، شعور، سمجھ، پکڑ، گرفت، عقل، ذہانت، فراست، بلوغت، بلوغت کی عمر، سن بلوغ، جوان ہونا- سِنُّ الادراك: سن شعور- تَدَارُك: تدریج، زوال، انحطاط- اِسْتِدْرَاك: چارہ سازی۔ اصلاح، تدبیر، دادرسی، معاوضہ، بدلہ، درستی، مرمت، عوض، تاوان، تلافی، سدھار، ترمیم، تصحیح- مُدْرَك: عقلی، معقول، مطابق عقل، عقل سے مزین، ذی شعور، عاقل، فہیم، دانشمند، جنسی طور پر بالغ، مونچھ داڑھی والا، بالغ- مُدْرَكَات: کامیابیاں آگہیاں، جامد آراء، مسلمہ تصورات- دَرَك: بڑی کریں۔ (سامان اٹھانے کی)۔

درم: ا- دَرِمَ- دَرَمًا العضو: گوشت کا عضو کی ہڈی کو چھپا لینا- صفت دَرِم و دَارِم و دَرِيم و اَدْرَم- ت الساق: ہموار ہونا- دَرَّمَ اَظْفَارَهُ: اپنے ناخن کاٹنے کے بعد ہموار کرنا- درع دَرِمَة: نرم یا چکنی متوازن زرہ- درع مُدَرَّمَة: نرم چکنی اور ہموار زرہ۔

۲- دَرِمَ- دَرَمَات الاسنان: دانتوں کا گرنا یا گرنے کے قریب ہونا- البعير: اونٹ کا دانت گرانا- اَدْرَمَ الصبيُّ: نئے دانت نکلنے کے لئے بچہ کے دانت ہلنا صفت: اَدْرَم مؤنث دَرْمَاء۔

۳- دَرَمَ- دَرْمًا و دَرَمًا و دَرَمَانًا و دَرَامَةً القنفذُ والارنب و نحوهما: خارپشت یا خرگوش وغیرہ کا چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔ اسی طرح دَرَمَ الشيخ و الصبيُّ: بوڑھے اور بچے کا چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا- دَارَمَ مُدَارَمَةً: بوجھل ہوتے ہوئے تیز چلنا- الدَّرِمَةَ- دَرِم کا مؤنث (ح) خرگوش- الدَّرَّام مؤنث دَرَّامَة: بدرفتار، پستہ قد- الدَّرَّامة (ح): خارپشت، سہی، خرگوش۔

۴- الدَّرْمَاء (ن): سرخ پتوں والا ایک پودا- الدَّرَامَا: ڈرامہ

۵- دَرْمَسَ: خاموش رہنا- الشيءَ: چیز کو چھپانا۔

۶- دَرْمَصَ دَرْمَصَةً: خاکساری کرنا۔

۷- الدَّرْمَق: سفید آٹا، میدہ۔

۸- دَرْمَكَ: دوڑنا- البناءَ: عمارت کو چکنا کرنا- الدَّرْمَك: نرم و ملائم مٹی۔ سفید آٹا، میدہ- الدُّرْمُوك: غالیچہ۔

○ دَرِمَ: دانتوں کا گرنا- دَرَّمَ ہ: ناخن کاٹنا، تراشنا، ناخن کاٹ کر درست کرنا۔

درن: ا- دَرِنَ- دَرَنًا الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا صفت: دَرِن و مِدْرَان مؤنث دَرِنَة و مِدْرَان- اَدْرَنَ الثوبَ: کپڑے کو میلا کرنا- الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا- الدَّرَن جمع اَدْرَان: میل کچیل۔

۲- اَدْرَنَت الماشيةُ: مویشی کا پرانی گھاس چرنا- الدَّرِين: پرانی خشک گھاس جس کو جانور نہ چریں، بوسیدہ کپڑا- اُمّ دَرِين: قحط زدہ زمین۔

۳- الدَّرَّان (ح): لومڑی- اُمّ دَرَن: دنیا۔

۴- الدُّرْنُوك و الدِّرْنِيك جمع دَرَانِيك: غالیچہ، قالین- رواں دار کپڑا۔

○ دَرِن- دَرَنًا: گندہ ہونا، میلا کچیلا ہونا- اَدْرَنَ: گندا ہونا، میلا کچیلا ہونا- تَدَرَّنَ: تپ دق میں مبتلا ہونا- دَرَن جمع اَدْرَان: گندگی، میل کچیل، گلٹیاں، پھنسیاں، دانے، دق کے دانے، سل، تپ دق، دق- دَرَن رِئَوِيّ: پھیپھڑوں کی دق- دَرَنَة جمع دَرَنَات: گلٹی، پھنسی، دانہ، دق کا ......، چھوٹا گومڑا، دنبل، رسولی، گرہ، دَرَنِيّ: دق (کے دانے) کا سا، دق کا مارا ہوا، دق میں مبتلا- تَدَرُّن: تپ دق، دق، سل- تَدَرُّنٌ رِئَوِي و تدرن الرئة: پھیپھڑوں کی دق- تَدَرُّنِيّ: دق کا مارا ہوا، دق میں مبتلا- مُتَدَرِّن: دق سے متاثر، دق کی پھنسیوں والا۔

درہ: ا- دَرَهَ- دَرْهًا عليهم: پر اچانک آ جانا- دَارِهَاتُ الدهر: مصائب زمانہ- التُّدْرَه: وضع، مدافعت کہا جاتا ہے- هو ذُو تُدْرَه: وہ اپنے دشمنوں پر اچانک ٹوٹ پڑتا ہے۔

۲- دَرَهَ- دَرْهًا لهم و عنهم: کی طرف سے مدافعت کرنا، کی حفاظت کرنا- المِدْرَه جمع مَدَارِه: سردار، قوم کا لیڈر، نمائندہ- التُّدْرَه: دفع کرنا، مدافعت کرنا۔

۳- دَرَهَ- دَرْهًا على كذا: پر کو زیادہ کرنا۔

۴- دَرْهَمَت الخُبَّازى: خبازی کا درہموں کی طرح گول پتے نکالنا- دُرْهِمَ الرجلُ: بہت درہموں والا ہونا- الدِّرْهَم و الدِّرْهِم و الدِّرْهَام جمع دَرَاهِم: چاندی کا سکہ (یونانی لفظ) مولدین کے نزدیک الدَّرَاهِم کے معنے مطلقاً نقود کے ہیں- المُدَرْهَم: بہت درہموں والا، مالدار۔

۵- اِدْرَهَمَّ: عمر رسیدہ ہونا۔ بڑھاپے کے باعث کے دانتوں کا گرنا- صفت مُدْرَهِمّ۔

۶- اِدْرَهَمَّ البصرُ: نظر کا کمزور ہونا- تاریک ہونا۔

○ مِدْرَه جمع مَدَارِه: ترجمان، نمائندہ

○ دِرْهَم جمع دَرَاهِم: درہم (ایک سکہ کا نام) دَرَاهِم: نقد، سکے، نوٹ، روپیہ پیسہ، دولت- بِضْعُ دَرَاهِمَ: پیسے کے سکے۔ چند درہم۔

درویش: الدَّرْوِيش: راہب، عابد، زاہد (فارسی لفظ ہے جس کے معنی فقیر کے ہیں۔)

○ دِرْوَة جمع درْوات: حفاظتی پردہ یا دیوار، منڈیر۔

○ دِرْوَاس: ایک قسم کا بڑا کتا جس کے ہونٹ اور کان لٹکتے رہتے ہیں۔

○ دَرْوِيش جمع دَرَاوِيش: درویش

دری: ا- دَرَى- دَرْيًا و دِرْيًا و دَرْيَةً و دِرْيَةً و دَرَيَانًا

و دِرْیانًا و دُرِیًّا و دِرایَةً (یہ آخری مصدر سب سے زیادہ مستعمل ہے۔) الشیءَ بالشیءِ کو سے جاننا۔ اَدْرَی الرجلَ بکذا کو سے باخبر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ما اَدْرَاکَ و ما یُدْرِیکَ تم نہیں جانتے۔

۲۔ دَرَی۔ دَرْیًا و تَدَرَّی و اِدَّرَی الصیدَ شکار کو دھوکا دینا۔ دَارَی مُدَارَاۃً: سے باہم نرمی کرنا، کو دھوکا دینا۔

۳۔ دَرَی - دَرْیًا الرأسَ سر میں کنگھی سے کھجانا۔ المِدْرَی و المِدْرَاۃ و المِدْرِیَۃ جمع مَدَارٍ و مَدَارَی: کنگھی، سینگ۔

○ دَرَی۔ دِرایۃ ہ/ ب کو جاننا، کا علم ہونا، سے آگاہ ہونا، باخبر ہونا، واقف ہونا، کو سمجھنا، کا ادراک کرنا، و ما یدری الاو اچانک وہاں تھا۔ دَارَی ہ کی خوشامد کرنا، سے خوشامد یا شریفانہ تواضع سے پیش آنا کو بہلانا، بہلانا، پیار سے یا خوشامد سے منانا، سے چاپلوسی سے کام نکالنا، کو دھوکا دینا، بیوقوف بنانا، سے منافقت کرنا۔ - ہ: کو چھپانا، پر نقاب ڈالنا، ڈھانپنا۔ اَدْرَی ہ ب: کو کچھ بتانا یا کے بارے میں بتانا، کو سے مطلع کرنا، کو کوئی نصیحت کرنا، کو کوئی اطلاع دینا۔ و ما اَدْرَاکَ ما و ما اَدْرَاکَ ب: کیا تم پوری طرح سمجھتے ہو کہ...... کیا ہے۔ تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ سے کیا مراد ہے؟ تَدَارَی اپنے آپ کو چھپانا۔ دِرایۃ علم، واقفیت، دانش آگہی، شناسائی، جان پہچان، اَدْرَی: زیادہ باخبر، زیادہ ذہین، زیادہ جاننے کے قابل، بہتر آگاہ۔ سب کو بہتر جاننے والا سے بہتر واقف، لا اَدْرِی: متشکک، مذہب یا روایات کی صحت کو شک وشبہ کی نظر سے دیکھنے والا، مُدَارَاۃ: ملنساری، یار باشی، صحبت، خوش خلقی، مروت، دارٍ ب: سے آگاہ، واقف، مطلع، محرم، مِدْرَی و مِدْرَۃ = مِدرَی و مِدْرَاۃ جمع مَدَارٍ: کشتی چلانے کا بانس۔

○ دِرْیاق دِرْیاق۔

○ دَرْزِینۃ درجن۔

دزر: دَزَرَ۔ دَزْرًا ہ: کو دفع کرنا، ہٹانا۔

دس ۱۔ دَسَّ۔ دَسًّا و دِسِّیسَی الشیءَ تحت التراب و فیہ: کسی چیز کو مٹی کے نیچے چھپانا۔ اِنْدَسَّ دفن ہونا۔ دھنسنا۔ المِدَسُّ: زخم کی گہرائی معلوم کرنے کا آلہ۔ الدَّسِیسُ جمع دُسُس: مٹی میں چھپائی ہوئی چیز، راکھ میں بھونی ہوئی شے۔ الدَّسَّاس (ح) سرخ رنگ کا چھوٹا سانپ جو مٹی میں چھپا رہتا ہے۔ ضرب المثل ہے۔ العِرقُ دَسَّاسٌ باپ دادا کی عادتیں بیٹوں میں آکر رہتی ہیں۔ الدَّسَّاسَۃ سانپ کی چھتری۔ (ح) سرخ رنگ کا چھوٹا سانپ جو مٹی میں چھپا رہتا ہے۔ (ح) لمبا سرخ رنگ کا کیڑا۔

۲۔ دَسَّ۔ دَسًّا و دِسِّیسَی علیہ: کے خلاف سازش کرنا، خفیہ حیلہ کرنا۔ دَسَّسَ تَدْسِیسًا بمعنی چھپانا، دھنسانا (تشدید مبالغہ کے لئے ہے) کہا جاتا ہے۔ دَسَّی جیسے کہا جاتا ہے۔ تَظَنَّی تَظَنَّنَ سے۔ تَدَسَّسَ بہ الی اعدائہ کے دشمنوں کے ساتھ ملکر اس کے خلاف سازش کرنا۔ الدَّسِیس جمع دُسُس: وہ شخص جس کو خبریں لانے کے لئے بھیجا جائے۔ الدُّسُس: کاموں میں دکھاوا کرنے والے، ریاکار لوگ۔ الدَّسِیسَۃ: چھپا ہوا مکر، پوشیدہ دشمنی۔ الدَّاسُوس: جاسوس۔

○ دَسَّ۔ دَسًّا ہ فی: کو میں رکھنا، کھسکانا، دھکیلنا، سرکانا، دھکا دینا، ڈالنا، گھسیڑنا، داخل کرنا، ٹھونسنا، کو (زمین) میں دفن کرنا۔ ہ/ ب فی کو میں چوانا، آہستہ سے ٹپکانا، بٹھانا، کو کے اندر انڈیلنا۔ السُّمَّ لِ: کو خفیہ طور پر زہر دینا۔ ہ فی کی میں آمیزش کرنا، کو غیر قانونی طور پر میں درآ ... ہ بین: کو میں چھپا دینا، غائب کر دینا، ہ نوح رنا، میں تحریف کرنا، بدنیتی سے الحاق کرنا۔ — علی / ل: کے خلاف سازش کرنا، ساز باز کرنا، ریشہ دوانی کرنا۔ دَسَّ الدسائس خفیہ جوڑ توڑ، فتنہ پردازی، سازشوں، ساز بازوں، منصوبہ سازی، یا ریشہ دوانی، میں مشغول ہونا۔ دَسَّسَ ہ کو رکھنا، ڈالنا، کھسکانا، دھکیلنا، سرکانا، دھکا دینا، گھسیڑنا، داخل کرنا، ٹھونسنا، کو چھپانا، تَدَسَّسَ الی میں خفیہ طور پر مشغول ہونا۔ — فی: میں چھپا ہونا۔ اِنْدَسَّ بین: کے درمیان سرک جانا، میں کھسک جانا، سرک جانا۔ — بین: کے مابین گھسنا، دبے پاؤں آنا، کھسک آنا، — فی: میں گھسنا، دبے پاؤں آنا، کھسک آنا، سرایت کرنا۔ فی / الی: کے دل میں گھر کرنا، چپکے چپکے کسی کے اعتماد میں آنا، — چھپا ہونا، دَسِیسَۃ جمع دَسَائِس سازش، ساز باز، ریشہ دوانی، خفیہ منصوبہ، دَسَّ الدسائس ضد: کے خلاف خفیہ منصوبے بنانا، سازشیں، گٹھ جوڑ، ریشہ دوانیاں کرنا۔ دَسَّاس جمع دَسَّاسون سازشی، منصوبہ باز، سازش کرنے والا، ساز باز کرنے والا، مفسد، ریت میں رہنے والا سانپ۔

دست: ۱۔ الدَّسْتُ جمع دُسُوت: (فارسی لفظ) حیلہ، دھوکا، مکان کا صدر مقام، مجلس، تکیہ، کاغذ، لباس، صحراء - فی لعب الشطرنج (شطرنج کے کھیل میں بولتے ہیں۔ الدَّسْتُ لی: میں جیت گیا۔ الدَّسْتُ عَلَیَّ: میں ہار گیا، مجھ کو مات ہوگئی۔) ایک معروف کھیل (یا دست)، جس میں مرغی کی ہڈی استعمال کی جاتی ہے) تانبے کی بڑی دیگچی (عام زبان میں)۔

۲۔ الدَّسْتَجَۃ: جمع دَسَاتِج: گٹھا، مٹھا شیشے کا بڑا برتن۔ (فارسی لفظ)

۳۔ الدَّسْتُور جمع دَسَاتِیر: (فارسی لفظ) مجموعہ قوانین، وزیر (قانون کی وجہ سے)، اجازت، وہ کتاب جس میں بادشاہ کے قوانین وضوابط درج ہوں، فوجیوں کے ناموں اوران کے وظائف وغیرہ کا رجسٹر۔

۴۔ الدَّسْتان: جمع دَساتِین (مو) موسیقی کی اصطلاح میں بربط کا تار (فارسی لفظ)

○ دَسْت: جمع دُسُوت: مقام شرف، عہدہ شرف، کونسل، دست الحکم (حاکم) کا تخت۔ دِسْت: جمع دُسُوت: کیتلی، بامکر، تانبے کی دیگ یا کڑھائی۔ دَسْتَۃ: درجن، گٹھڑی، بقچہ، پلندہ، بنڈل، گانٹھ، پیکٹ، ڈبہ۔ — دُسْتور: جمع دساتیر تحریری قانونی، قواعد، ضوابط، ذیلی قوانین، (بنیادی) آئینی قانون (ملکی) آئین۔ (عام زبان میں) اجازت۔ دُسْتورِیّ: آئینی۔ النظام الدستوری: آئینی شکل کی حکومت۔ دُسْتُورِیۃ آئینی ہونا۔ عدم الدستوریہ: غیر آئینی ہونا۔

دسر ۱۔ دَسَرَ۔ دَسْرًا ہ: کو نیزہ مارنا، کو دفع کرنا، ہٹانا۔ دَوْسَر: شاہ عراق نعمان بن منذر کی فوج کے دستہ کا نام۔ الدَّسْرَاء: جمع دُسُر: کشتی

۲۔ دَسَرَ۔ دَسْرًا الشیءَ: کو میخ لگانا۔ — السفینۃ: رسی یا میخ، وغیرہ سے کشتی کی درستی کرنا۔ — الدِّسَارَ فی الشیءِ چیز میں میخ ٹھونکنا — الدِّسار جمع دُسُر و دُسْر: کیل، میخ، جہاز وغیرہ کی درزیں بند کرنے کے لئے پرانی رسیوں کی سن۔

۳۔ الدَّوْسَر گیہوں میں ایک تلخ قسم کا دانہ (ح): شیر، (ح): موٹا اونٹ، — و الدَّوْسَرِیّ و الدَّوَاسِر و الدَّوَاسِری و الدَّوْسَرَانی مضبوط، موٹا۔

○ دَسَرَ۔ دَسْرًا ہ: کو دھکیلنا، کو دور لیجانا، کو دھکا دینا، دَاسِر مشین کا پنکھا، ہوا پیچ، فضائی بادکش۔

دسع ۱۔ دَسَعَ۔ دَسْعًا: منہ بھر کرتے کرنا۔ — بقیئہ: قے پھینکنا۔ — الشیءَ کو دفع کرنا، ہٹانا۔ — الاناء: برتن کو بھرنا۔ — البعیرُ جِرَّتَہ: اونٹ کا جگالی کرنا۔ بعیرٌ دَیْسَع بہت جگالی کرنے والا اونٹ۔ — المَدْسَع: حلق میں کھانے کی نالی۔ — الدَّسِیع اونٹ کے حلق میں نرخرے کی جگہ۔ الدَّسِیعۃ جمع دَسَائِع بڑا پیالہ۔

۲۔ دَسَعَ۔ دَسْعًا العِرقُ رگ کا گوشت میں چھپنا۔

۳۔ دَسَعَ۔ دَسْعًا الرجلُ بہت بخشش دینا۔ الدَّسِیعَۃ جمع دَسَائِع بہت بخشش، عمدہ دسترخوان۔

۴۔ الدَّسِیْعَۃ: جمع دَسَائِع: طبیعت۔ قوت۔

دسق: ۱۔ دَسِقَ ۔دَسَقًا الحوضُ حوض کا بھرنا، لبالب ہونا۔ اَدْسَقَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ الدَّیْسَق: بھرا ہوا حوض۔

۲۔ الدَّیْسَق: چاندی کا تھال یا خوانچہ۔ صاف چاندی کا ہر زیور، لمبا راستہ، بوڑھا آدمی، خوبصورتی، روشنی، سفیدی، سراب کی سفیدی اور چمک۔

دسك: ۱۔ الدَّوْسَك: چمڑے کی پٹی۔

۲۔ الدَّسْكَرَۃ: جمع دَسَاكِر (فارسی لفظ): بڑا گاؤں، گرجا، ہموار زمین، وہ جگہیں جہاں شراب اور کھیل کود کی چیزیں ہوں۔ محل جیسی عمارت جس کے ارد گرد مکانات ہوں اور ان میں مدذات لوگوں کا اجتماع ہوتا ہو۔

○ دَسْكَرَۃ: جمع دَسَاكِر: گاؤں۔

دسم: ۱۔ دَسَمَ ۔دَسْمًا القارورۃَ: بوتل کا منہ بند کرنا، ڈاٹ لگانا ۔ الباب: دروازہ بند کرنا۔ ۔ الجرحَ: زخم میں بتی رکھنا۔ اَدْسَمَ القارورۃَ: بوتل کا منہ بند کرنا، بوتل کو ڈاٹ لگانا۔ الدُّسْمَۃ و الدِّسام: کاک ڈاٹ (بوتل وغیرہ کا) کہا جاتا ہے: ماھو الا دُسْمَۃٌ اس میں کوئی بھلائی نہیں۔

۲۔ دَسَمَ ۔ دَسْمًا المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کو تھوڑا سا تر کرنا۔ دَسَّمَ المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کو تر کر دینا۔ الدَّیْسَم: کام کا مہربان ساتھی۔

۳۔ دَسَمَ الاثرُ: نشان مٹ جانا۔

۴۔ دَسَمَ ۔دَسْمًا البعیرَ: اونٹ پر قطران وغیرہ ملنا۔ دَسِمَ ۔دَسَمًا و تَدَسَّمَ: سیاہی مائل مٹیالے رنگ کا ہونا۔ دَسَّمَ الشیءَ: کو سیاہ کرنا۔ الدَّیْسَم: سیاہی، تاریکی۔ الدُّسْمَۃ: بھورا مائل سیاہی۔

۵۔ دَسِمَ ۔ دَسَمًا و دُسُومَۃً: بہت چربی والا ہونا۔ صفت: دَسِم و اَدْسَم: مونث دَسِمَۃ و دَسْماء: جمع دُسْم و دُسُم تَدَسَّمَ الشیءَ: پر چکنائی رکھنا۔ الدَّسَم: چکنائی (گوشت کی یا چربی کی)

۶۔ دَسِمَ ۔دَسَمًا و تَدَسَّمَ الشیءُ: میلا ہونا مٹیالے رنگ کا ہونا۔ الدَّسَم: چکنائی کا میلا پن

۷۔ الدَّسَم: طرف، چیز کی انتہاء کہا جاتا ہے۔ انا علی دَسَمِ الامر: میں کام کے اختتام پر ہوں۔ الدَّیْسَم (ح): ریچھ یا اس کا بچہ (ح): لومڑی یا لومڑی کا بچہ (ن) ایک قسم کی گھاس

○ دَسَم: چربی، روغن، چکنائی۔ دَسِم: چربی دار، روغن دار، روغنی، چکنا، کثیف، میلا، غلیظ، گندہ، میلا کچیلا، زرخیز، ثمر آور، بہت سا، کثیر، وافر، اہم، پرمغز، زوردار، پرمعنی، پرخیال (پڑھنے کا مسالہ)۔

اَدْسَم: مونث دَسْمَاء جمع دُسْم: بہت چکنا، بہت روغنی، روغنی، چربی دار، کثیف، گندہ، غلیظ، میلا، میلا کچیلا، زیادہ زرخیز، زیادہ معقول، زیادہ پرمغز، زیادہ زوردار، زیادہ پرمعنی۔ دَسَامَۃ: چکناہٹ، چکنائی، میل کچیل، کثافت، میل۔ دُسُومَۃ: چکناہٹ، کثرت، اہمیت اصلیت۔ دِسَام: ڈاٹ، کاگ، پچر، پلگ، گٹا۔ دَیْسَم: سدابہار پھول، گل اشرفی۔

○ دِسَمْبَر دِیسَمْبِر: دسمبر۔ شمسی سال کا بارہواں مہینہ۔

دسا: دَسَا ۔دُسُوًّا و دَسِيَ ۔دَسًا: نشوونما نہ پانا۔ ۔ الرجلُ: چھپنا۔ دَسَّى الرجلَ: کو خراب کرنا، گمراہ کرنا۔ ۔ نفسَہ: اپنے آپ کو گمنام کرنا، کم بخت کرنا۔

○ دَسَّى ہ: کو رائج کرنا۔ تَدَسَّى: چھپنا، چھپا ہوا ہونا۔ ۔ الی: کے آر پار ہونا۔

دش: دَشَّ ۔دَشًّا: دلیا تیار کرنا۔ ۔ الحَبَّ: غلہ کو کچلنا، دلنا۔ الدَّشِیْش: گیہوں کے مانند ایک غلہ کا دلیا۔ الدَّشِیْشَۃ (ط): دلیا۔

○ دُش: فوارے کے نیچے غسل، ڈوش، پچکاری۔ دَشِیش و دَشِیشَۃ: دلے ہوئے گیہوں اور مکھن سے تیار کیے ہوئے دلیہ کی ایک قسم۔

○ دَشْت: کاٹ کباڑ، ردی مال، ردی چیز الابلا، ملبا، کوڑا کرکٹ، خس وخاشاک، ردی۔

دشق: الدَّوْشَق: بڑا گھر، (ح) موٹا اونٹ۔

دشك: الدَّوشك: فرش، بچھونا (فارسی لفظ)۔

دشن: ۱۔ دَشَنَ ۔دَشْنًا الشیءَ: چیز کو دینا۔ تَدَشَّنَ الشیءَ: چیز لینا۔

۲۔ دَشَّنَ الثوبَ: کپڑا پہلی بار پہننا، عام لوگ اس معنی میں خَشَّنَ کہتے ہیں ۔ المعبدَ: کسی عبادت گاہ میں برکت کے طور پر سب سے پہلے نماز ادا کرنا۔ الداشِن من الثیاب: نیا کپڑا جو ابھی پہنا نہ گیا ہو۔ ۔ من الدور: نیا مکان جس میں کسی نے رہائش نہ کی ہو۔ (دُشن: جو فارسی لفظ ہے کو عربی کا جامہ پہنایا گیا ہے)۔

○ دَشَّنَ ہ: کو پیش کرنا، دینا، کو نذر کرنا، وقف کرنا، کسی دینی کام کے لئے مخصوص کرنا، کا افتتاح کرنا، تدشین: نذر کرنا، وقف کرنا، دینی کام کے لئے مخصوص کرنا، افتتاح کرنا۔ تدشین الکنیسۃ: گرجا کا وقف، تقدیس، تحریم۔

دشا: دَشَا ۔دَشْوًا: لڑائی میں کود پڑنا۔

○ تَدَشَّى: ڈکار لینا۔

دظ: دَظَّ ۔دَظًّا ہ: کو دھتکارنا۔

دع: ۱۔ دَعَّ ۔دَعًّا ہ: کو سختی سے ہٹانا۔ اَدَعَّ الرجلُ: بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں والا ہونا۔ الدَّعَاع: (کسی کے) چھوٹے چھوٹے بال بچے۔ الدُّعَاع واحد دُعَاعَۃ (ح) سیاہ پردار چیونٹیاں۔ (ز): کھجور کے متفرق درخت، (ز): ایک جنگلی درخت کے سیاہ دانے۔

۲۔ دَعْدَعَ دَعْدَعَۃً و دِعْدَاعًا: آہستگی سے دوڑنا۔ تَدَعْدَعَ: بوڑھے کی طرح چلنا۔ دَعْدَعْ: (آخری عین کے جزم) و دَعْدَعًا: (اور آخری عین پر دو زبروں کے ساتھ) گرنے والے کو کہا جاتا ہے معنی ہے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔

۳۔ دَعْدَعَ دَعْدَعَۃً و دِعْدَاعًا الجفنۃَ: برتن بھرنا۔ ۔ المکیالَ: پیمانہ کو ہلانا تا کہ اس میں زیادہ چیز سمائے۔ تَدَعْدَعَ الشیءُ: کو بھرنا۔

۴۔ الدَّعْدَاع: پست قد۔

دعب: ۱۔ دَعَبَ ۔دَعْبًا و دَعَابَۃً ہ: کو دفع کرنا، ہٹانا۔

۲۔ دَعَبَ ۔دَعْبًا و دَعَابَۃً ہ: سے مذاق کرنا، مسخری کرنا۔ دَاعَبَ مُدَاعَبَۃً ہ: کے ساتھ کھیلنا، سے مذاق کرنا۔ تَدَعَّبَ علیہ: پر ناز کرنا۔ تَدَاعَبَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ الدَّعِب والداعب: کھیلنے کودنے والا، ہنسی مذاق کرنے والا۔ دَعَّاب و دَعَّابَۃ: بہت خوش طبعی کرنے والا، بہت ہنسی مذاق کرنے والا (اس میں تا مبالغہ کے لئے ہے۔ تانیث کے لئے نہیں)۔ الدُّعَابَۃ: خوش طبعی ہنسی مذاق۔

الدُّعْبُب: بڑا کھلاڑی، اچھا گویا۔ الاَدْعَب: مونث دَعْبَاء: جمع دُعْب: احمق، بےوقوف۔ الدُّعْبُوب: پستہ قد، کمزور شخص جس کے ساتھ مذاق کیا جائے۔ بےوقوف، مخنث۔

۳۔ الدُّعْبُب: نازک بدن جوان۔ الدُّعْبُوب (ح): سیاہ چیونٹی۔ سیاہ دانہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت چلنے والا کھلا راستہ، خوش اور چست آدمی (ح) لمبا گھوڑا۔ لیلۃٌ دُعْبُوبٌ: بری رات، سیاہ و تاریک رات۔

۴۔ الدُّعْبُوث و الدُّعْبُوس: کم خرد، بےوقوف۔

۵۔ الدُّعْبُل: مینڈک کے انڈے ۔ والدِّعْبِلَۃ (ح): طاقت ور اونٹنی۔

○ دَعَّ ہ: (غریب یا یتیم) کی بات کو حقارت سے مسترد کر دینا۔

○ دَعَبَ ۔دُعَابَۃ ہ: سے مذاق کرنا، دل لگی کرنا، کو چھیڑنا۔ دَاعَبَ ہ/ہ: کے ساتھ کھیلنا، ہ: سے مذاق کرنا، دل لگی کرنا، کو چھیڑنا۔ ہ ب: کو خوش طبعی سے (چپت) لگانا، ۔ ھا: (عورت) سے تفریحاً محبت کرنا، جی بہلانا۔

کلول کرنا، کھیلنا کے پیچھے پھرنا، ۔ سے عشقیہ تعلق رکھنا۔ ۔۔ ہ: سے لہروں کا کھیلنا......۔۔۔ ہ: پر پیار سے ہاتھ پھرنا، چومنا۔۔۔ ہ: سے تفریح کرنا، کو ترغیب دینا، بہکانا، سبز باغ دکھانا (امیدوں وغیرہ کا)،۔۔۔ ہ: کوئی باجا وغیرہ بجانا۔ داعَبَ البیانو: پیانو بجانا۔ تداعَب: آپس میں ہنسی مذاق کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، خوش طبعی کرنا۔ دَعِب: ہنسی مذاق کرنے والا، ہنسوڑ، دل لگی باز، کھلنڈرا، چنچل پر مذاق، زندہ دل، خوش وخرم، خوش مزاج، ہنس مکھ، شوخ۔ دُعابة: جمع دُعابات: ہنسی مذاق، دل لگی، چھیڑ چھاڑ، مذاق، شوخی۔ دَعّاب: خوش طبع، ٹھٹھول، ہنسوڑ، ظریف، پرمذاق، خوش مزاج، چنچل، کھلنڈرا، شوخ مزاج، زندہ دل، خوش، خوش وخرم، ہنس مکھ، شوخ، مُداعَبة: جمع مُداعبات: کھیل، مذاق، شوخی، دل لگی، ہنسی مذاق، ظرافت، خوش طبعی، بزلہ سنجی، نخرہ بازی، معاشقہ، عورتوں کے پیچھے پھرنا، داعِب: ہنسی مذاق کرنے والا، دل لگی کرنے والا، چنچل، کھلنڈرا، شوخ، شوخ مزاج، زندہ، دل، پرمذاق، ہنسوڑ، دل لگی کرنے والا، خوش وخرم۔ مُداعِب: ہنسی مذاق کرنے والا، دل لگی کرنے والا، چھیڑ چھاڑ کرنے والا۔

○ مُدَعْبَل: بیمار، مضمحل، افسردہ، سست، ناساز، گول، گیند کی شکل کا۔

دعت: دَعَتَ۔دَعْتًا هُ: کو سختی سے دھکیلنا، زور سے دھکا دینا۔

دعث: ا۔ دَعَثَ۔دَعْثًا: پاؤں یا ہاتھ وغیرہ سے مٹی کو باریک کرنا۔ بہ الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔ اِنْدَعَثَ الشیءُ: روندا جانا، پامال کیا جانا۔

۲۔ دُعِثَ: کے رونگٹے کھڑے ہونا۔ الدَعْث: بیماری کی ابتداء۔

۳۔ اَدْعَثَ فی الشرّ: برائی میں زیادتی کرنا۔ تَدَعَّثَت صُدورُهم: کینہ و بغض رکھنا۔ الدِعْث: جمع اَدْعاث و دِعاث: کینہ، بغض۔

۴۔ اَدْعَثَ الشیءَ: کو باقی رکھنا۔ الدِعْث جمع اَدعاث و دِعاث: باقی ماندہ پانی۔

۵۔ اَدْعَثَ الشیءَ: چیز کو چرانا۔

۶۔ دَعْثَرَ الارضَ: زمین کو روندنا۔۔۔ الحوضَ: حوض توڑنا۔ المُدَعْثَر من الحوض: اطراف سے گرایا ہوا، ٹوٹا ہوا حوض، گڑھا۔

۷۔ الدَعْثَر: احمق، بیوقوف۔ الدُعْثور من النَعَم: بہت جانور۔

دعج: دَعِجَ۔دَعَجَت العینُ: آنکھ کا بہت سیاہ اور بڑی ہونا۔ اَدْعَج: مؤنث دَعْجاء: جمع دُعْج: سیاہ اور بڑی آنکھوں والا۔ الدُعْجة: آنکھوں کی سیاہی اور فراخی۔ لیلٌ اَدْعَج: تاریک رات، سیاہ رات۔ الدَعْجاء: قمری ماہ کی اٹھائیسویں شب۔ المَدْعُوج: مجنون۔

○ اَدْعَج: مؤنث دعجاء: جمع دُعْج: سیاہ آنکھوں والا، گہری سیاہ اور فراخ (آنکھ)

دعر: ا۔ دَعِرَ۔دَعَرًا العودُ: لکڑی کا دھواں دینا اور نہ جلنا۔۔۔ الزَنْدُ: چقماق کا آگ نہ دینا صفت اَدْعَر الداعِرة: جمع مَداعیر: وہ کھجور کا درخت جس میں قلم نہ لگ سکے۔

۲۔ دَعِرَ۔دَعَرًا العودُ: لکڑی کا بوسیدہ ہونا۔ صفت: الدُعْر واحد دُعْرَة (ح): لکڑی کو کھانے والا کیڑا، گھن۔

۳۔ دَعَرَ۔ و دَعِرَ۔دَعارةً الرجلُ: بدکار ہونا۔ تَدَعَّرَ الرجلُ: بد اور شریر ہونا۔ الدَعَر و الدَعْرة و الدَعارة و الدِعارة: خباثت، بدکاری، فساد، رجلٌ دُعَر و دُعَرة: خائن جو اپنے ساتھیوں کی عیب جوئی کرے۔ الداعِر (فا): مؤنث داعِرة: جمع دُعّار: شریر، برا، بدکار۔ الدَعارة و الدَعّارة: بدخوئی۔

۴۔ تَدَعَّر وجهُهُ: کے چہرے کا داغدار ہونا۔

○ دَعِرَ۔دَعَرًا: بد اخلاق ہونا، فاسق ہونا، فاجر ہونا، بدفعل ہونا۔ دَعَر: بدفعلی، فسق و فجور، بدکرداری، بے حیائی، بے شرمی، دَعِر: بے حیا، بے شرم، فحش، نفس پرست، عیاش، زانی، لچا، غنڈہ، بدکار، آوارہ، بدمعاش، بدچلن، خلاف تہذیب، بیہودہ، بدفعل، خلاف شرع، دَعارة و دِعارة: فحاشی، بے حیائی، بے شرمی، بدفعلی، بدکاری، فسق و فجور، عیاشی، اوباشی، بدکاری، شہوت پرستی، رنڈی بازی۔ بیت الدعارة: چکلا، رنڈی کا مکان۔ داعِر: جمع دُعّار: بمعنی دَعِر۔

دعس: ا۔ دَعَسَ۔دَعْسًا الشیءَ: کو روندنا۔۔۔ و دَعَّسَ المراةَ: عورت کو چھاتی سے لگانا، سے محبت سے کھیلنا، کو پیار کرنا، کی ناز برداری کرنا۔ الدَعْس: نشان۔ طریقٌ دَعْسٌ: بہت نشانات والا راستہ۔ المَدْعَس و المِدْعاس جمع مَداعِس و مداعیس: بہت چلنے والی سڑک۔

۲۔ دَعَسَ۔دَعْسًا فلانًا: کو دفع کرنا، ہٹانا، دھکا دینا۔ و دَعَّسَهُ بالرمح: کو نیزہ سے مارنا۔ داعَسَ مُداعَسةً: آپس میں نیزہ بازی کرنا۔ المِدْعَس: نیزہ مارنے والا، ۔ و المِدْعاس: جمع مَداعِس و مداعیس: نیزہ۔

۳۔ دَعَسَ۔دَعْسًا الوعاءَ: برتن کو بھرنا۔

۴۔ المَدْعَس: امیدگاہ۔

○ دَعَسَ۔دَعْسًا هُ: کو پاؤں کے نیچے روندنا، پامال کرنا، کچلنا۔۔۔ ہ: (گاڑی کا) کسی کو مار گرانا، کو نیچے لے لینا۔ اِنْدَعَس: (دَعَس: کا مجہول کا صیغہ جیسے) روندا جانا، کچلا جانا، پامال ہونا۔

دعص: ا۔ دَعَصَ۔دَعْصًا هُ: کو قتل کرنا۔۔۔ هُ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ اَدْعَصَ هُ: کو قتل کرنا۔ المَداعِص: نیزے۔

۲۔ داعَصَ هُ: کا عزت میں مقابلہ کرنا۔

۳۔ تَدَعَّصَ اللحمُ: گوشت کا سڑ کر ریزہ ریزہ ہونا۔

الدِعْص: جمع دِعَصة و اَدْعاص و الدِعْصة: جمع دِعَص: ریت کا تودہ یا ٹیلہ۔ الدَعْصاء: نرم اور دوسری جگہوں سے زیادہ گرم زمین۔ المُنْدَعِص: لاش جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہو۔

دعق: ا۔ دَعَقَ۔دَعْقًا الطریقَ: راستے کو بہت روندنا۔ دُعْق و دَعِق و مَدْعُوق: بہت روندا ہوا (راستہ)۔ دَعِقَ۔دَعَقًا الطریقُ: راستہ کا بہت روندا ہوا ہونا۔ الدُعْقة: اونٹوں کا گلہ۔

۲۔ دَعَقَ۔دَعْقًا الغارةَ: سب طرف لوٹ ڈالنا۔۔۔ و اَدْعَقَ الخیلَ: گھوڑوں کو ایڑ لگانا۔۔۔ علیهم الخیلَ: پر لوٹ مار میں گھوڑوں سے چڑھائی کرنا۔ الدَعْقة: چڑھائی، شور و غل۔ خیلٌ مَداعِیق: لوٹ مار میں دشمنوں کو روندنے والے گھوڑے۔

۳۔ دَعَقَ۔دَعْقًا الماءَ: پانی کو جاری کرنا۔ المَدْعَق: پانی بہنے کی جگہ۔ الدُعْقة: بارش کی بوچھاڑ۔

۴۔ دَعَقَ۔دَعْقًا الرجلَ: کو فورا مار ڈالنا۔

۵۔ دِعْوِیقَةُ الطَیُّون (ح): ایک چھوٹی چڑیا۔ (عام بول چال میں)

دعك: ا۔ دَعَكَ۔دَعْكًا الثوبَ: کپڑے کو نرم و ملائم کرنا۔۔۔ الخصمَ: مخالف کو نرم کرنا۔۔۔ الجلدَ: چمڑے کو ملنا۔۔۔ الشیءَ فی التراب: چیز کو مٹی میں لوٹانا۔ کہا جاتا ہے۔ دعكه بالقول: اس نے اس کو بات سے دکھ دیا۔ داعَكَ مُداعَكةً هُ: کے ساتھ سخت جھگڑا کرنا۔ تَداعَكَ القومُ: آپس میں خصومت کا سنگین ہو جانا۔ تداعکو فی الحرب: لڑائی میں باہم زور آزمائی کرنا۔ الدَعِك: سخت جھگڑالو۔ المِدْعَك و المُداعِك: سخت جھگڑالو دشمن۔

۲۔ دَعِكَ۔دَعَكًا: بے وقوف ہونا۔ صفت داعِك و داعِكة: مؤنث داعِكة۔ کہا جاتا ہے۔ فلانٌ

احمقُ داعِکۃٌ: فلاں شخص سخت بے وقوف ہے۔ (تاء مبالغہ کی ہے)۔

۳۔ داعَکَ مُداعَکۃً ہٗ: کو ٹال مٹول کرنا۔

۴۔ الدُّعَکُ گمنام (ح) ایک قسم کا پرندہ، کمزور۔ الدُّعْکَۃ: راستہ کا بڑا حصہ۔

○ دَعَکَ - دَعْکاً ہ: کو ملنا، رگڑنا، گھسنا، مسلنا، کھرچنا، مانجنا، جھاڑو سے صاف کرنا، صاف کرنا، (میلے کپڑے) پٹرے پر صاف کرنا، کو پیسنا، کچلنا، پامال کرنا، مسلنا، نچوڑنا، ملنا، کوٹنا، (کاغذ) کو مروڑنا، ریزہ ریزہ کرنا، پرشکن کرنا۔

دعل ۱۔ دَعَلَ - دَعْلاً ہٗ: کو دھوکا دینا۔ داعَلَ ہٗ ایک دوسرے کو دھوکا دینا۔ الداعِل (فا) بھگوڑا۔

۲۔ دَعْلَجَ دَعْلَجَۃً اللیلُ رات کا تاریک ہونا۔ الدَّعْلَج تاریکی۔

۳۔ دَعْلَجَ دَعْلَجَۃً الرجلُ بار بار آنا جانا۔

۴۔ دَعْلَجَ دَعْلَجَۃً الشیءَ چیز کو لڑھکانا۔

۵۔ دَعْلَجَ دَعْلَجَۃً الشیءُ چیز کے رنگوں کا مخلوط ہونا۔ الدَّعْلَج (ز): گھنے اور گنجان تودے۔

۶۔ الدَّعْلَج: بھری ہوئی گون، خوبصورت اور نازک بدن جوان۔

دعم ۱۔ دَعَمَ - دَعْماً الشیءَ: کو ٹیک لگانا تاکہ جھکنے نہ۔ ــــ ہ: کی مدد کرنا، کو تقویت پہنچانا۔ اِدَّعَمَ: سہارا لینا۔ تھاما جانا۔ الدِّعْمَۃ جمع دِعَم و الدِعام جمع دُعُم و الدِعامۃ جمع دعائِم: گھر کا ستون، لکڑی کا کھمبا جو چھت کو سہارا دینے کے لئے کھڑا کیا جائے۔ الدِعْمتان و الدِعامتان: چرخی کے ہر دو رخ کے ڈنڈے۔ دِعامۃُ القومِ قوم کا سردار۔ الدُّعْمِیّ: بڑھئی، مضبوط سہارا دی ہوئی چیز۔ المُدَّعَم: پناہ گاہ۔

۲۔ تَداعَمَ الامرُ فلاناً پر کاموں کا ہجوم کرنا۔

۳۔ الدُّعْمِیّ: راستہ کا بڑا حصہ۔ فرسٌ دُعْمِیٌّ: سفید سینے والا گھوڑا۔ فرسٌ اَدْعَمُ: سفید سینے والا گھوڑا۔

۴۔ دَعْمَصَ الماءُ: پانی کا سیاہ کیڑوں والا ہونا۔ الدُّعْمُوص جمع دَعامِص و دَعامِیص (ح) پانی کا سیاہ کیڑا جو تالابوں میں پانی کم ہونے پر دکھائی دیتا ہے۔ عوام اس کو البُلْعُط کہتے ہیں۔

○ دَعَمَ - دَعْماً و دَعَمَ ہ: کو تھامنا، سہارنا، کو تھامے رہنا، کو سہارا دینا، لگانا، کی پشت بندی کرنا، کو مستحکم کرنا، مضبوط کرنا، جوڑنا۔ اِدَّعَمَ تھمنا، سہارا دیا جانا، تھاما جانا۔ ــــ علی پر ٹیک لگانا، پر قائم ہونا۔ بنیاد ہونا۔ دِعْمَۃ: جمع دِعَم: پیل پایہ، سہارا، آسرا، تائید، پشت پناہ، دِعامۃ جمع دعامات و دَعائِم: سہارا، آسرا، پیل پایہ، کنارا پایہ، ستون، اڑواڑ، پشت۔ دَعائِم السیادۃ: حکومت کے ستون۔ تَدْعِیم: سہارا، تقویت، مدد، کمک استحکام، مضبوطی، تائید۔

دعن: دَعَنَ - دَعانۃ: بخل کرنا، شوخی کرنا۔ الدِعَن: جمع دِعَنّۃ: بخیلی، شوخ۔

دعا ۱۔ دَعا - دُعاءً و دَعْوَیٰ ہٗ: کو پکارنا، کی طرف راغب ہونا، سے مدد چاہنا۔ ــ المیّتَ میت پر رونا۔ ــ ہٗ الی الامر: کو کسی کام کی طرف چلانا۔ ــ بہ: کو حاضر ہونے کے لئے کہنا۔ ــ دَعْوَۃً و مَدْعاۃً فلاناً: کو کھانے پر بلانا۔ ــ دُعاءً لہ: کے حق میں دعائے خیر کرنا۔ ــ علیہ: کے حق میں بددعا کرنا۔ ــ الیہ کی طرف بلانا۔ تَدَعّی تَدَعِّیا ت النائحۃ نوحہ کرنے والی کا بلند آواز سے رونا۔ تَداعَی القومُ ایک دوسرے کو بلانا۔ اِنْدَعَی اِنْدِعاءً لدعوتہ کی پکار کا جواب دینا، کی دعا قبول کرنا۔ اِدَّعَی الشیءَ: کی تمنا کرنا۔ اِسْتَدْعَی اِسْتِدْعاءً ہٗ کو پکارنا، ــ الشیءَ چیز طلب کرنا، کو لازم سمجھنا۔ الدُعاء: جمع اَدْعِیَۃ دعا کا مصدر، دعا کرنا۔ الدَعْوَۃ قسم، پکار، دعا کہا جاتا ہے۔ لہم الدعوۃُ علی غیر ہم: دعاء میں انہی سے ابتداء کی جاتی ہے۔ کُنّا فی دعوۃِ فلان: ہم فلاں کی ضیافت اور مہمانی میں تھے۔ ہو منی دَعْوَۃَ الرجل: وہ مجھ سے قریب ہے (ظرفیت کی بنا پر نصب ہے) جیسے کہتے ہیں۔ ہو منّی رمیۃَ السہم و مَزْجَرَ الکلبِ الداعی (فا): جمع دُعاۃ مؤنث داعِیَۃ جمع داعیات و دواعٍ لوگوں کو اپنے دین اور مذہب کی طرف بلانے والا۔ ــ والداعیۃ جمع دَواعٍ: سبب، داعِی اللَّبَنِ و داعِیَتُہٗ وہ تھوڑا سا دودھ جو تھنوں میں چھوڑ دیا جائے تاکہ بقیہ دودھ با آسانی دوہ سکیں۔ الدَّعّاء بہت دعا کرنے والا۔ المَدْعاۃ کھانے کی دعوت، سبب، وجہ۔ الدعایۃ عند المحدثین: کسی شخص، جماعت یا نظریہ وغیرہ کی طرف دعوت کی نشر و اشاعت۔ وزارۃ الدعایۃ: وزارت نشر و اشاعت۔ دائرۃُ الدعایۃ: محکمہ نشر و اشاعت۔

۲۔ دَعا - دُعاءً و دَعْوَی ہٗ فلاناً و بفلان: کا کوئی نام رکھنا۔ اِدَّعَی اِدِّعاءً ہٗ: کو اس کے باپ کی طرف منسوب کرنا۔ اِدَّعَی الی غیر ابیہ غیر باپ کی طرف منسوب ہونا۔ ــ فی الحرب جنگ میں اپنا نسب نامہ بیان کرنا۔ الدَّعِیّ جمع اَدْعِیاء: لے پالک، جعلی، جس کے نسب میں شبہ ہو، اپنے آپ کو غیر باپ یا غیر قوم کی طرف منسوب کرنے والا۔

۳۔ داعَی مُداعاۃً ہٗ: سے جھگڑا کرنا، ایک دوسرے سے پہیلی یا چیستان کہنا۔ تَداعَوا الشیءَ: کسی چیز کا دعوی کرنا۔ اِدَّعَی الشیءَ کا سچا یا جھوٹا دعوی کرنا۔ ــ بہ: کو اپنی طرف منسوب کرنا اور سمجھنا کہ وہ اس کی ہے۔ ــ علیہ: کے خلاف قاضی کے پاس مقدمہ کرنا۔ الدَّعْوۃ و الدَّعاوۃ و الدِّعاوۃ: الادعاء کا اسم الدَّعْوَی جمع دَعاوٍ و دَعاوَی: مقدمہ، دعوی۔ ــ اِدِّعاء کا اسم الاُدْعِیَّۃ و الاُدْعُوَّۃ جھگڑے کا موضوع۔

۴۔ داعَی مُداعاۃً الحائطَ: دیوار کو گرانا۔ تَداعَت الحیطانُ: دیواروں کا پھٹ جانا، تڑخ جانا ــ العدوُّ دشمن کا متوجہ ہونا۔ ــ القومُ علیہ قوم کا کسی سے دشمنی رکھنے میں متفق ہونا۔

۵۔ دَواعِی الصدر افکار و ہموم ــ الدہر زمانہ کی گردشیں اور واقعات۔

○ دَعا - دُعاءً ہ: کو پکارنا ــ ہ/ ب: کو بلانا، طلب کرنا، کو بلا بھیجنا، ــ ہ الی/ ل کو کسی فوجی خدمت کے لئے بلانا، ــ ہ ل/ الی: سے کسی کام وغیرہ کی اپیل کرنا، کو کی دعوت دینا، پر کسی کام کے لئے زور دینا۔ ــ ہ الی: کو کی دعوت دینا۔ ــ ہ الی /ل کو کی ترغیب دینا، کو پر آمادہ کرنا، سے کوئی کام لینا۔ ــ ہ /ب کو کے نام سے پکارنا کا کوئی نام رکھنا، دُعِیَ پکارا جانا نام ہونا۔ ــ اللہ: اللہ تعالی سے دعا کرنا۔ ــ لہ: کے لئے خیر کی خواہش کرنا، کو دعا دینا، کے حق میں دعا کرنا۔ ــ ب ل: خدا کی رحمت کی کسی پر دعا کرنا، کی دعا کرنا کی خاطر۔ ــ ل ب: کے لئے کی التجا کرنا، ــ علی: کے حق میں بددعا کرنا، ــ ل: کی اشاعت کرنا، کی نشر و اشاعت کرنا، کے لئے پروپیگنڈا کرنا، ــ الی کا تقاضا کرنا، کا مطالبہ کرنا، کو طلب کرنا، کی ضرورت ہونا، کا باعث ہونا، کو ظہور میں لانا، کا باعث بننا۔ دُعِیَ للاجتماع: اجتماع (پارلیمنٹ) کا اجلاس طلب کیا جانا، دُعِیَ الی حملِ السلاح فوجی خدمت کے لئے طلب کیا جانا، رجل یُدْعَی ایک مرد نامی......، کے نام کا۔ دعالہ بطول العمر: کے لئے درازی عمر کی دعا کرنا۔ داعاہ کو چیلنج کرنا ــ ہ: سے جھگڑا کرنا، کے خلاف قانونی کارروائی کرنا، پر مقدمہ چلانا، کے خلاف استغاثہ کرنا، کے خلاف نالش کرنا، تَداعَی ایک دوسرے کو چیلنج کرنا، ایک دوسرے کو بلانا، ایک دوسرے کے (جذبات وغیرہ) ابھارنا، (دیواریں وغیرہ) ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ ہونا، خراب و خستہ ہونا، بری حالت میں ہونا، بیٹھ جانا، دھنس جانا، (شخص کا) زمین پر گر جانا،

مجازاً ثقافتی مظہر کا) ڈھیر ہو جانا، زوال پذیر ہونا رو بہ تنزل ہونا۔ ـل کر بیٹھنا یا چلنا، حمایتیوں کا جمع ہونا
اِدَّعَی ہ: کا دعوی کرنا۔ ـــ أن: دعوی کرنا کہ، بیان دینا کہ دعوے سے کہنا کہ ـــ ہ: پرحق جتانا، کا مطالبہ کرنا، کا دعوی کرنا، کے نامناسب دعوے کرنا، ناجائز طور پر کسی چیز پر قبضہ کرنا یا اس پر کسی حق کا دعویٰ کرنا۔ ـ ہ: کا جھوٹا اظہار کرنا، ـــ: (عدالت میں) شہادت دینا۔ علی ہ/ب: کو کا الزام دینا، پر کا الزام لگانا، کو کا قصوروار ٹھہرانا، استدعی ہ: کو بلانا، بلا بھیجنا، (پولیس عدالت کا) کسی کو طلب کرنا، (سفیر) کو دوبارہ طلب کرنا۔ (پروفیسر وغیرہ) کو تعینات کرنا، کو نام لیکر کر بلانا، ـــہ الی: کو کی دعوت دینا، پر کچھ کرنے کا زور دینا، کو کی تجویز پیش کرنا، کی اپیل کرنا، ـــ ہ: کو مانگنا، کی ضرورت ہونا، کا مطالبہ کرنا، کو ضروری بنانا، لازمی کرنا، کو ناگزیر بنانا، دعوۃ: پکار، اپیل، مطالبہ، درخواست، اعلان، حکم، ـــ الی: کے لئے بلاوا، طلبی، دعوت، ۔ بلاوا (سرکاری) اطلاع نامہ، حکم نامہ، طلبی دعوت، دعوت نامہ، دعویٰ، مطالبہ، درخواست، استدعا، تبلیغی سرگرمی، تبلیغی کام، نشر الدعوة: تبلیغی سرگرمی، تبلیغی کام، پروپیگنڈا جمع دعوات، دعا، مناجات، طلب نصرت طلب فیضان ، التجا، گڑگڑا کر مانگنا، منت سماجت، عرض، نیک خواہش، دعوات صالحات: نیک خواہشات، دعوۃ بالشر: لعنت، نفریں، بددعا، صاحبُ الدعوة: میزبان، دَعْویٰ: جمع دَعَاوِی و دَعَاوٍ: دعوی، الزام، ادعاء، ڈھونگ، مقدمہ، کاروائی، قانونی کاروائی بِدَعْوَیٰ ان: اس عذر پر۔ دَعِیّ: جمع اَدْعِیاء: جھنبی، لے پالک، حرامی، ولدالزنا، شیخی خورہ، دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرنے والا۔ مدعی، جھوٹا دعوی کرنے والا، دھوکے باز، فریبی، دغاباز، ٹھگ، بہروپیا، دُعاء: جمع اَدْعِیَة: پکار، دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا، طلب نصرت و طلب فیضان اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء مناجات، التجا، منت سماجت، استدعا، عرض، درخواست، دعا، نماز ـــ لِ: کے لئے نیک خواہش ـ علی: پر لعنت، نفریں، اَدْعَی الی /ل: کا زیادہ باعث، زیادہ ممد، پر زیادہ اکسانے والا، زیادہ ترغیب دینے والا، زیادہ آمادہ کرنے والا، کا زیادہ بڑا محرک کا نسبتاً زیادہ حد تک باعث بننے والا۔ دَعَاوَة و دِعَاوَہ: جمع دعاوات: پروپیگنڈا، ـــ إلی: کی تشہیر۔ دَعَاوِیّ و دعاوِی: مبلغانہ، ناشرانہ، نشر و اشاعت کے متعلق۔ دِعَایة: پروپیگنڈا دِعَائی: پروپیگنڈا سے متعلق۔ مَدْعَاة: تعین کرنے والا عنصر، فیصلہ کن مقصد یا محرک، سبب، موقع۔ تَدَاعٍ: قریب الوقوع انہدام، سر پر منڈلاتا انحطاط، ایک دوسرے کو بلانا، تداعی المعانی: افکار کا باہمی میل جول، ـــ اِدِّعَاء: جمع ادعاء ات: دعوی، جھوٹا دعوی، بے جا دعوی، ناجائز مفروضہ، ظن، قیاس یا گمان، الزام، حتمی بیان، ڈھونگ، حیلہ، مکر، بہانہ، اتہام، الزام، الاِدِّعَاء: (عدالت میں) استغاثہ، اِسْتِدْعَاء: حکمانہ طلبی، اطلاع نامہ حاضری، بلانا دوبارہ بلانا، واپس بلانا، سرکاری طلبی، اطلاع نامہ، دَاعٍ: جمع دُعَاة: دعوت دینے والا پروپیگنڈا کرنے والا، مبلغ میزبان، مقصد وجہ، سبب۔ لاداعِیَ لِ: کیلئے یہ ضروری نہیں یا کے لئے کوئی ضرورت نہیں، کیلئے کوئی وجہ نہیں۔ داعِیة إلی: کی دعوت دینے والا، کا طالب، کا مبلغ، مناوی نقیب، جمع دَوَاعٍ: مقصد، وجہ، سبب، موقع، جمع دَوَاعٍ: ضرورت، شدید ضروریات۔ داعیة حَرْبٍ: جنگ چھیڑنے کی کوشش کرنے والا، جنگ شروع ہونے کا حامی۔ لِدواعٍ صحیة: صحت کی وجوہات کے لئے۔ من دواعی سرُوری: سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ مَدْعو: جس کو دعوت دی گئی ہو، مہمان، بلایا گیا، نام رکھا گیا، نامی، کے نام کا، مُتَدَاعٍ: ایک دوسرے کو پکارنے والا (دوسرے خیالات یا دوں) کی طرف لیجانے والا، نازک، لرزاں (ساخت)، ٹوٹا پھوٹا، شکستہ، لڑھکتا، ڈگمگاتا، گرنے کو تیار، جس کے انہدام کا خطرہ ہو، زوال پذیر، زوال پذیر حال میں، مُدَّعٍ: دعوی کرنے والا، حتمی بیان دینے والا، بیان کرنے والا، مُدَّعی: جھوٹا دعوی کرنے والا، زعم باطل رکھنے والا، دعویدار، نالش کرنے والا، مستغیث، دادخواہ، پیروی کرنے والا، استغاثہ دائر کرنے والا، دیدہ دلیر، گستاخ، شوخ، مغرور، ہٹیلا، ضدی، خود رائے، خردماغ، خودپسند، خودبین۔ المدعی العمومی: سرکاری وکیل۔ المدعی العام: سرکاری وکیل۔ مُدَّعًی: دعوی کیا ہوا المدعی علیه مدعی علیه: (Defendant) جمع مُدَّعیات: دعوے، مُسْتَدْعٍ: درخواست دہندہ، درخواست دینے والا، استدعا کنندہ، سائل۔

دغد: دَغْدَغَ دَغْدَغَةً فلانا بکلمة: کو کسی بات سے طعنہ دینا، مطعون کرنا۔ المُدَغْدَغ: حسب و نسب میں کھوٹ رکھنے والا، الدَغْدَغة: رکیک گفتگو کرنا۔ گدگدی کرنا، مثلاً پاؤں کے تلوے یا بغل کو گدگدانا۔ عام لوگ گدگدی کو [illegible] اور [illegible] کہتے ہیں۔

○ دَغْدَغَ ہ: کو گدگدانا۔ ـــہ: کو چبانا، چابنا، چبا کر کھانا، ـــ: مسلنا، پیسنا، کچلنا

دغر: ۱۔ دَغَرَ ـ دَغْراً ہ: کو دفع کرنا، دھکیلنا، ـــ علیه: کسی پر اچانک آنا، دَغَرَ ـ دَغْراً و دَغْرَیٰ علیهم: لوگوں پر اچانک پہنچ جانا، اِنْدَغَرَ علیه: پر یک بیک آ جانا۔ الدَغْرَة: کسی شئے کو اچک لینا۔ المَدْغَرَة: گھمسان کی لڑائی جس میں لوٹ مار ہو۔
۲۔ دَغَرَ ـ دَغْراً فی البیت گھر میں داخل ہونا، ـــ الشیءَ فی الشیء: ایک چیز کو دوسری میں ملانا، خلط ملط کرنا۔ ـتِ المراۃُ حلقَ الصبیِ: عورت کا بچے کے حلق کو انگلی سے دبانا، ـت الأُم ابنها: ماں کا بچے کو دودھ سے سیر نہ کرنا۔
۳۔ دَغَرَ ـ دَغْراً ہُ: کو گلا گھونٹ کر مار ڈالنا۔
اِنْدَغَرَ: دبنا، بھنچنا، نچڑنا۔
۴۔ دَغِرَ ـ دَغَراً الرجلُ: بدخلق اور لیئم ہونا، صفت: دَاغِر۔ الدَاغِر: بد، مفسد، حقیر، ذلیل۔
○ دَغَرَ ـ دَغْراً و دَغْرَیٰ علی: پر حملہ کرنا، پر ٹوٹ پڑنا، سختی سے حملہ کرنا، دَغْر: حملہ، ہلہ، دھاوا، دَغْرَیٰ: حملہ، ہلہ، دھاوا۔
○ دُغْرِیّ: سیدھا، سیدھی، سامنے۔

دغش: ۱۔ دَغَشَ ـ دَغْشاً: تاریکی میں داخل ہونا، ـــ علیهم: پر اچانک ٹوٹ پڑنا، ہجوم کرنا۔ دَاغَشَ حولَ الماءِ: پیاس میں پانی کے اردگرد گھومنا، ـــ الماءَ: پانی کو تیزی سے پی جانا۔ اَدْغَشَ: تاریکی میں داخل ہونا۔ تَدَاغَشَ القومُ و دَغْوَشوا: لڑائی یا شور و غل میں آپس میں گتھ جانا۔ الدَغَش و الدُغْشَة و الدَغِیشَة: تاریکی۔
۲۔ دَاغَشَ ہُ: پر بھیڑ کرنا، ـــ فی الشیء: حرص کے باعث کسی سے کوئی چیز مکر سے طلب کرنا۔
○ دغشت الدنیا: اندھیرا ہو گیا، دھندلکا چھا گیا، دَغَش: تاریکی، دھندلکا، جھٹ پٹا، دَغِیشَة: تاریکی شام کا دھندلکا۔

دغص: ۱۔ دَغِصَ ـ دَغَصاً: کھانے یا غصے سے بھر جانا۔ اَدْغَصَ ہُ: کو غصے سے بھر دینا۔ الداغِصَة: جمع دَوَاغِص: گٹھا ہوا گوشت۔ الدَغْصَان: غضبناک۔
۲۔ اَدْغَصَ ہُ الموتُ: کو موت کا یک بیک آ لینا۔ دَاغَصَ مُدَاغَصَةً فی العمل: کام میں تیزی برتنا۔
۳۔ الداغِصَة: جمع دَوَاغِص: خالص صاف پانی گھٹنے کی چپنی۔ عوام اس کو صابونة الرکبة: کہتے ہیں۔

○ دَغَصَ - دَغَصاً: مونہا منہ بھرا ہوا ہونا، پھٹنے کے قریب ہونا۔ دَاغِصَۃ: جمع دَوَاغِص: گھٹنے کی چپنی، گھٹنے کی چپنی ہڈی۔

دغف: ۱۔ دَغَفَ - دَغْفًا الشیءَ: کو سختی سے پکڑنا۔ دَغَفَهُم الحرُّ: گرمی کا سخت ہونا۔ ابو الدَّغفاء: بے وقوف۔

۲۔ الدَّغفَل (ح): ہاتھی یا بھیڑیے کا بچہ، بہت سے پر۔ عَیشٌ دُغفُلِیّ: آسودہ زندگی، عامٌ دُغفُلِیّ: سرسبز سال۔

دغل: دَغَلَ - دَغَلاً فیہ: میں مشتبہ شخص کی طرح داخل ہونا۔ اَدْغَلَ الرجلُ: گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوکر غائب ہوجانا۔ ـــت الارضُ: زمین کا گھنے درختوں والی ہونا، ـــ الشیءَ: کسی چیز میں مخالف اور خراب کرنے والی چیز ملانا۔ بہ: کو خیانت کر کے اچانک مار ڈالنا، کی چغلی کھانا، الدَّغَل: جمع اَدْغَال و دِغَال والدَّغِیلَۃ: گھنے اور گنجان درختوں کا جھنڈ، وہ چیز جو کسی کام میں داخل ہوکر اس کو خراب کردے۔ وہ جگہ جہاں ہلاکی کا خطرہ ہو۔ مکانٌ دَغِلٌ: گھنے اور گنجان درختوں کی جگہ، پوشیدہ جگہ۔ الدَّاغِلَۃ: باطنی کینہ، وہ لوگ جو کسی کی خیانت اور عیب جوئی کے متلاشی ہوں۔

المَدْغَل: جمع مَدَاغِل: وادی کا درمیانی حصہ۔

الدَّغَاوِل: مصائب اس کا واحد نہیں ہے۔

○ دَغَلٌ: جمع اَدْغَال و دِغَال: گھنے درختوں کا جھنڈ، جنگل جھاڑیوں کے جھنڈ۔ عیب داری، کھوٹ، خرابی، بگاڑ۔ دَغِل: گھنی جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی (جگہ) ناقابل گذر، خراب، مُدْغِل: گھنی جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی (جگہ)، غلط، غدار، بے وفا، دھوکا دینے والا (کردار میں)۔

دغم: ۱۔ دَغَمَ - دَغْمًا و دَغَماناً القومَ الحرُّ او البردُ: کو گرمی یا سردی کا لگنا۔ ـــ الاناءَ: برتن کو ڈھانپنا، ـــ انفَہُ: کی ناک توڑنا، ـــ دَغِمَ - دَغْمًا و دَغَماناً القومَ الحرُّ او البردُ: کو گرمی یا سردی کا لگنا۔ اَدْغَمَهُم الحرُّ و البردُ: کو گرمی یا سردی لگنا۔ ـــ اللّٰہُ فلاناً: اللہ تعالیٰ کا کسی کا منہ کالا کرنا اور اسے ذلیل و رسوا کرنا۔ ـــ ہُ الشیءُ: کو کسی چیز کا دکھ پہنچانا، برا لگنا۔ ـــ الفرسَ اللجامَ: گھوڑے کے منہ میں لگام دینا۔ ـــ واَدْغَمَ الشیءَ فی الشیءِ: ایک شے کو دوسری میں داخل کرنا۔ صرف کی اصطلاح میں ادغام بھی اسی سے ہے کیونکہ اس میں بھی ایک حرف کو دوسرے میں شامل کیا جاتا ہے۔

۲۔ اِدْغَامَ اِدْغِیماماً بفرسٍ: گھوڑے کا منہ، باقی جسم سے زیادہ سیاہی مائل ہونا صفت: اَدْغَم۔ الاَدْغَم جمع دُغْم: کالی ناک والا۔ الدَّغَم و الدُّغْمَۃ: گھوڑے کا رنگ جس کا منہ زیادہ سیاہی مائل ہو۔

۳۔ الاَدْغَم: جمع دُغْم: ناک میں بولنے والا۔ الدُّغَام: حلق کا درد۔

۴۔ دَغْمَرَ دَغْمَرَۃً: پر عیب لگانا، ـــ الرجلُ: بد خلق ہونا، ـــ الشیءَ: کو خلط ملط کرنا، ـــ الدَّغْمَرِیّ والدُّغْمُرِیّ: ملے جلے اخلاق والا۔ الدَّغَامِر: قوم کے رذیل لوگ۔

○ اِدَّغَمَ واِدْغَمَ ہ فی: کو میں رکھنا، داخل کرنا، ڈالنا، ضم کرنا، شامل کرنا، (گرامر میں) ایک لفظ کو دوسرے میں ادغام کرنا کو سے ملا دینا، اِنْدَغَمَ: ملنا، اکٹھا ہونا، شامل ہونا، یکجا ہونا، مجسم ہونا، ملایا جانا، آمیزش ہونا، مدغم ہونا، جذب ہونا، سکڑنا۔

دف: ۱۔ دَفَّ - دَفًّا و دَفِیفًا: آہستہ چلنا۔ اَدَفَّ اِدْفَافاً ت علیہ الامورُ: پر کاموں کا پے در پے آنا، ـــ و تَدَافَّ القومُ: بعض کا بعض کے پیچھے سوار ہونا، الدَّافَّۃ: خانہ بدوش لوگ، دشمن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے والی فوج۔

۲۔ دَفَّ - دَفًّا و دَفِیفًا الطائرُ: پرندے کا پر پھڑپھڑانا۔ اَدَفَّ اِدْفَافًا الطائرُ: پرندے کا پر پھڑپھڑانا، ـــ اِسْتَدَفَّ الطائرُ: پرندے کا زمین کے قریب ہوکر اڑان کرنا۔ الدَّفُوفُ من الطیر: جھپٹتے وقت زمین سے قریب ہوجانے والا پرندہ۔ کہا جاتا ہے۔ عُقَابٌ دَفُوفٌ: عقاب جو جھپٹتے وقت زمین کے قریب آجاتا ہے۔

۳۔ دَفَّ - دَفًّا و دَفِیفًا لَہُ الامرُ: کے لئے کام وغیرہ کا تیار ہونا اور ممکن ہونا، اِسْتَدَفَّ الامرُ: صحیح ہونا، درست ہونا، تیار ہونا، ممکن ہونا۔

۴۔ دَفَّ - دَفًّا الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا، دَفَّفَ و دَافَّ: جلدی کرنا، ـــ الجریحَ و دَافَّ علیہ: زخمی کو جھٹ پٹ مار ڈالنا۔ استدف الرجلُ الموسی: استرے سے شیو کرنا۔

۵۔ دَفَّفَ الرجلُ: دف بجانا، ـــ الدُّف: جمع دُفُوف (مو): دف، دفلا۔ الدَّف: جمع دُفُوف (مو) دف ـــ و الدَّفَّۃ: ہر شے کا پہلو۔ کہا جاتا ہے: رماہ اللّٰہ بذات الدف ای: اللہ تعالیٰ اس کو ذات الجنب نمونیا کی بیماری میں مبتلا کرے۔ دفتا الطبل: ڈھول کے ہر دو رخ کے چمڑے جن پر بجانے کے لئے ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ الدَّفَّاف: دف بجانے والا دف بنانے والا۔

۶۔ الدَّفُّ: واحد دَفَّۃ: لکڑی کے تختے، الدَّفَّۃ: چوار (یہ کلمہ مولّدہ ہے فصیح عربی السُّکَّان ہے)۔

۷۔ دَفْدَفَ: جلدی کرنا، ـــ الطائرُ: پرندے کا زمین کے قریب ہوکر اڑنا۔ الدُّفُوف: دف جلدی جلدی بجانا۔

○ دَفَّ - دَفِیفًا: پرندہ کا پر پھڑپھڑانا۔ دَفَّفَ: جلدی کرنا۔ دَفّ: جمع دُفُوف: پہلو، بغلی سمت، دَفّ و دَفّ جمع دُفُوف: دف، مردنگ، طنبورہ، دَفَّۃ: پہلو، دروازے یا کھڑکی کا ایک پٹ۔ (کتاب کی) جلد۔ الدَّفَّتَان: (کتاب کی) دو جلدیں (یعنی اوپر نیچے یا دونوں طرف کی جلد)، پتوار، دنبالہ، سُکَّان: (کشتی چلانے اور رخ بدلنے کا آلہ)، قائدُ الدفۃ یا مُدِیرُ الدَّفَّۃ: جہازران، سمت بین پتوار چلانے والا، سُکَّان گیر۔ قَبَضَ عَلَی دَفَّۃِ التنفیذ: (کسی تنظیم) کا کنٹرول سنبھالنا، رہنما بننا، یَدُ الدَّفَّۃ: کسان، کاشت کار، چرواہا، من الدفۃ للشابورۃ: سب بلا استثناء، ہر ایک، سب اکٹھے، سب مل کر۔

دفی: ۱۔ دَفِیءَ یَدْفَأُ دَفَأً و دُفُوًّا و دَفُؤَ یَدْفُؤُ دَفَاءَۃً من البرد: گرم ہونا، گرمی پانا، یا گرمی محسوس کرنا۔ دَفَّأَہٗ: کو گرم کرنا، اَدْفَأَہٗ: کو گرم کپڑا پہنانا، تَدَفَّأَ و اِدَّفَأَ و اِسْتَدْفَأَ: گرم ہونا، گرم کپڑا پہننا۔ الدِّفءُ: جمع اَدْفَاء: سخت گرمی، اون، پوستین، سمور وغیرہ، گرمی حاصل کرنے کا سامان، (آپ کہتے ہیں۔ ما علیہ دِفءٌ: اس پر گرمی حاصل کرنے کا کوئی سامان نہیں)۔ اونٹوں سے پیدا شدہ بچے اور حاصل کردہ نفع۔ دِفءُ الحائط: دیوار کی پناہ کہا جاتا ہے۔ اقعد فی دِفءِ الحائط: دیوار کی پناہ یا اوٹ میں بیٹھ جاؤ۔ الدِّفَاء: گرم کپڑے، گرمی حاصل کرنے کا سامان۔ الدَّفِیء و الدفآن: مؤنث دَفِئَۃ و دَفْأَی: گرمی حاصل کرنے والا، گرم لباس پہنے ہوئے۔ الدَّفِئَۃ من الاراضی: بہت گرم زمین۔ الدَّفْآن م دَفْأَی: یعنی الدَّفِیء۔ اِبِلٌ مُدْفِئَۃ و مُدْفَأَۃ و مُدَفَّئَۃ و مُدَفَّأَۃ: بہت اونی اور چربی والے اونٹ۔ اَرضٌ مَدْفَأَۃ: بہت گرم زمین۔ المِدْفَأَۃ: چولہا، انگیٹھی، آتش دان، ـــ والمَدْفِئَۃ: شیشے کی عمارت جس میں گرم ملکوں کے پودے اگائے جاتے ہیں جو سردی برداشت نہیں کرسکتے۔ التدفئۃ المرکزیۃ: کمرے گرم کرنے کا مرکزی نظام۔

۲۔ اَدْفَأَہٗ: کو بہت دینا۔ الدِّفءُ: عطیہ۔

۳۔ اَدْفَأَ الجریحَ: زخمی کو مار ڈالنا۔

۴۔ اَدْفَأَ القومَ: قوم کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔

۵۔ الاَدْفَأ: مؤنث دَفْأَی: وہ شخص جس کے شانے سینہ کی طرف جھکے ہوئے ہوں۔ الدَّفَا: شانوں کا سینہ کی طرف جھکنا۔

○ دفیۃ: ڈھیلا ڈھالا اونی چوغہ۔

○ دَفِیَ ءَ -وَ دَفُؤَ- دَفَأً: گرم ہونا، قدرے گرم ہونا، گرم یا قدرے گرم محسوس کرنا۔ دَفَّأَ و اَدْفَأَ ہ: کو تپانا، گرم کرنا، گرمانا۔ تَدَفَّأَ و اِدَّفَأَ و اِسْتَدْفَأَ: خود گرم ہونا، قدرے گرم ہونا۔ دِفْءٌ: گرمی، حرارت، تپش۔

دَفِئٌ و دَفِیْءٌ: گرم، قدرے گرم، دِفْآن: مؤنث دَفْآی: گرم، قدرے گرم، دِفَـاء: گرم کرنے کا سامان، گرم کرنے کا نظام، دَفَـاءَۃ: گرمی، حرارت، تپش، قدرے گرمی۔ دِفَّایَۃ: جمع دِفَّایات: چولھا، انگیٹھی، آتشدان، مِدْفَأ و مِدْفَأَۃ: جمع مَدَافِیء: چولھا، انگیٹھی، گرم کرنے کا چولھا، انگیٹھی۔ تَدْفِئَۃ: گرم کرنے کا سامان یا نظام۔

دفت: الدَّفْتَر: جمع دَفَاتِر: رجسٹر، حساب کی کتاب، لکھنے کی کتاب۔

○ دُفْتَر: جمع دَفَاتِر: کتابچہ، نوٹ بک، کاپی بک، بہی، روزنامچہ، کھاتہ، رجسٹر، نقشہ اوقات، بدلی جدول، سرکاری رجسٹر۔ دفتر حسابیٌ: بہی کھاتہ، بنک پاس بک، پاس بک، بنک کے حساب کی کاپی، دفتر المخطابات: چٹھیوں کی مسل، فائل، چمڑے کا تھیلا، بریف کیس، دفتر الشروط: کتاب جس میں کسی خریداری، ٹھیکہ، اجارہ، پٹہ، وغیرہ کے شرائط دیے گئے ہوں۔ دفتر الاشتراك: چندوں کا کتابچہ۔ دفتر الصندوق: کیش رجسٹر۔ دفتر المساحة: زمینوں کا رجسٹر، دفتر الیومیه: ڈائری، روزنامچہ، مَسْكُ الدفاتر: کھاتہ نویسی، (Book Keeping) دفتر خانہ: دفتر خانہ، محافظ خانہ، پبلک ریکارڈز آفس، دفتر خانة الاملاك العقارية: زمینوں کی رجسٹری کا دفتر۔

○ دِفْتِریا: خناق

دفر: دَفَرَ- دَفْرًا ہُ: کو پیچھے دھکیلنا۔

دَفِرَ- دَفَرًا و دَفْرًا: ذلیل ہونا، دَفَارِ: (مبنی علی الکسر) لونڈی، باندی اکثر نداء کے وقت استعمال کیا جاتا ہے اور لونڈی کے لئے گالی سمجھا جاتا ہے۔

۲- دَفِرَ- دَفَرًا و دَفْرًا الشیءُ: بدبودار ہونا، صفت: دَفِر و اَدْفَر مؤنث دَفِرَة و دَفْرَاء ـــ اللحمُ: گوشت میں کیڑے پڑنا۔ اَدْفَرَ الرجلُ: کی بغل کا بدبودار ہونا، گندہ بغل ہونا۔ الدَّفْر (مص): بدبو۔ دَفَارِ (مبنی علی الکسر): دنیا۔ امُّ دَفَارِ و امُّ دَفْر: دنیا، مصیبت۔

۳- الدِّفْرَان (ن): سرو کی مانند ایک خوبصورت درخت، بہت اونچا ہوتا ہے، پتے چوڑے ہوتے ہیں، جبل لبنان کے دامن میں جبل الشیخ اور ترکی و یونان کے بعض خطوں میں پایا جاتا ہے۔ (سریانی لفظ)

○ دَفَرَ ہ: کو دھکیلنا، دھکا دینا۔ دَفِرَ- دَفَرًا: بدبودار ہونا، متعفن ہونا، بدبو نکلنا، دَفَـر: عفونت، بدبو، سڑاند، دَفِر: بدبودار، متعفن، سڑا ہوا گندا۔

○ دَفَسَ ہ: کو چھپانا۔ دھکیلنا۔

دفع: ا- دَفَعَ- دَفْعًا و دَفَاعًا و مَدْفَعًاہُ: کو ہٹانا، دور کرنا، رد کرنا۔ ـــ القولَ: کو دلیل و حجت سے رد کرنا، باطل کرنا۔ ـــ عنه الاذی: کو اذیت سے بچانا۔ ـــ عن الموضع: کسی جگہ سے کوچ کر جانا۔ ـــ الیه: کسی جگہ پہنچنا۔ کہا جاتا ہے۔ طریق یدفع الی مکان کذا: راستہ جو فلاں جگہ تک پہنچتا ہے۔ ـــ ہ الی کذا: کو پر مجبور کرنا۔ ـــ ہُ فی کذا: کو میں داخل کرنا دُفِعَ الی المکان: کسی جگہ تک پہنچنا۔ دَافَعَ مُدَافَعَةً و دفاعا عنه: کی حمایت کرنا، مدد کرنا۔ ـــ عنه الاذی: سے اذیت دور کرنا۔ ـــ ہُ: کی مزاحمت کرنا، کو روکنا، سے مزاحم ہونا۔ ـــ ہُ عنه حقه: کو اس کا حق دینے میں ٹال مٹول کرنا۔ تَدَفَّعَ السیلُ: سیلاب کا زور سے بہنا، امڈنا۔ تَدَافَعَ القومُ: بعض کا بعض کو ہٹانا، ایک دوسرے کو دھکیلنا۔ تَدَافَعُوا الشیءَ: کو ایک دوسرے کے ذمے لگانا۔ کہا جاتا ہے۔ ضیف یتدافعه الحیُّ: وہ مہمان جس کو قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے ذمے لگائیں ایک دوسرے پر ٹالیں۔ اِنْدَفَعَ الرجلُ: ایک طرف ہونا، ہٹنا۔ ـــ الفرسُ فی سیرہ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ ـــ السیلُ: سیلاب کا زور سے بہنا۔ ـــ الرجل فی الحدیث: بات چیت میں لگنا۔ ـــ یقول: کہنے لگنا۔ اِسْتَدْفَعَ اللّٰهَ الشرَّ: اللہ تعالیٰ سے برائی ٹالنے کی التجا کرنا۔ الدَّفْعَة دفع کا اسم مرة الدُّفْعَة جمع دُفَع و دُفُعَات: بارش کی بوچھاڑ۔ مشک یا برتن سے ایک مرتبہ گری ہوئی چیز کی مقدار۔ الدَّوَافِع: نشیبی علاقے جہاں سیلابوں کا پانی جمع ہو جائے۔ الدَّفُوع: بہت ہٹانے والا ـــ من الدواب: لات مارنے والا جانور۔ الدَّفَّاع: بہت ہٹانے والا۔ الدِّفَاع (اع): دشمن کے حملوں کو روکنے کے طریقے اور اسلوب دفاع، الدفاع البَحْرِیّ: ساحلی توپ خانہ سے دفاع۔ الدفاع البَرّی: بری دفاع (قلعوں، خاردار، تاروں وغیرہ سے) ـــ الجَوِّیّ: فضائی دفاع (جہازوں، فوجی گاڑیوں، بیرکوں کو دشمن کی نظروں سے چھپانے اور طیارہ شکن توپوں کے ذریعے) ـــ السَّلْبِیّ: ہوائی حملوں سے شہری آبادی کا بچاؤ۔ ـــ المَدْفَع: جمع مَدَافِع: پانی کے بہاؤ کی جگہ۔ المِدْفَع: ہٹانے والا۔ ـــ جمع مَدَافِع: ہٹانے کا آلہ، بندوق، توپ، المدفع الرشّاش: مشین گن۔ الذّرّی: ایٹمی بم پھینکنے والی برقی توپ۔ غیر المُرتکز: توپ جو فوجی پٹھوں پر لیجاتے اور کندھوں پر رکھ کر چلاتے ہیں۔ ـــ قاذف الصواریخ: راکٹ انداز (Rocket Launcher) مِدْفَعُ الاقتحام یا مدفع الهجوم: پیدل یا گاڑیوں میں لیجائے جانے والی فوج کے ساتھ جانے والی توپ۔ ـــ الهاون: اونچا گولہ پھینکنے والی چھوٹی توپ (Mortar) المدفعُ المضاد للطائرات طیّارة شکن توب: (Anti Aircraft Gun) الدُّفَّـاع: موج یا سیلاب کا زور۔ لوگوں کی بھیڑ یا ہجوم۔ کہا جاتا ہے۔ جاءَ فی دُفَّاعٍ من الناس: وہ لوگوں کے ہجوم میں آیا۔ المُدَفَّع: وہ ذلیل و حقیر فقیر جس کو نہ کوئی مہمان رکھے نہ بخشش ملے۔ المِدْفَعِیَّة (اع): توپ خانہ اس کی قسموں میں سے بعض یہ ہیں۔ المدفعیة البریة و المدفعیة الجبلیه و مدفعیة الشاطی: بری توپ خانہ، پہاڑی توپ خانہ، ساحلی توپ خانہ۔

۲- دَفَعَ الیه الشیءَ: کو کوئی چیز ادا کرنا۔

○ دَفَعَ- دَفْعًا ہ/ ہ عن: کو سے ہٹانا، دھکیلنا، دھکا دینا، دور کرنا، نکالنا، ہانکنا، ہانک کر لیجانا، لے جانا، پیچھے ہٹانا، دَفَعَهُ جانباً: کو ایک طرف کرنا۔ دفع ہ عن نفسہ: سے نجات حاصل کرنا، جان چھڑانا، پیچھا چھڑانا ـــ ہ/ ہ: سے بازی لے جانا، پر فتح پانا، کو شکست دینا، پر قابو پانا۔ ـــ ہ ب: سے کے ساتھ لڑنا، لڑائی کرنا۔ ـــ ہ: کو مسترد کرنا، نہ ماننا، کو غلط ثابت کرنا، کی تردید کرنا، تغلیط کرنا، کو آگے دھکیلنا، چلانا، ـــ ہ/ب الی/ل: پر کے لئے زور دینا، کو پر آمادہ کرنا، ابھارنا، کو پر اکسانا، سے کوئی کام کرنا، کو کی ترغیب دینا، سے کوئی کام کرانے کے لئے قوت کا استعمال کرنا، کو پر مجبور کرنا، سے کوئی کام کرانا۔ ـــ ہ الی/ل: کو کے حوالے کرنا، کو کی خدمت میں پیش کرنا، کو کوئی چیز کسی کو سونپنا، کوئی چیز کسی کے ہاتھوں میں دینا۔ ـــ ثمنا ل/ الی: قیمت کسی کو ادا کرنا۔ دَفَعَ خُطاهُ الی: کی راہ لینا۔ دافَعَ ہ/ ہ: کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کے مقابلہ میں جمے رہنا، کا مقابلہ کرنا، کی مدافعت کرنا، مقاومت کرنا۔ ـــ ہ عن: کی مخالفت کرنا تا کہ وہ کسی کام سے رک جائے۔ کو سے باز رہنے کیلئے کہنا۔ ـــ ہ: کو کچل دینا، دبا دینا، ختم کر دینا۔ ـــ عن: کی حفاظت کرنا، کو بچانا، کی حمایت کرنا، تائید کرنا، کا دفاع کرنا، کو برقرار رکھنا، کا دفاع سپرد کیا جانا۔

تَـدَفَّـعَ: اچانک یا تیزی سے آگے کی طرف بڑھنا، لپکنا، تیزی سے جانا، (پانی کا) بہنا، زور سے بہنا، زور سے پھوٹ نکلنا، (خیال سماجی رجحان وغیرہ) یکا یک اٹھ بیٹھنا، محسوس ہونا، تَـدَافَـعَ: ایک دوسرے کو دھکیلنا دھکا دینا، دور یا ایک طرف ہٹانا، ــ عن: سے دھکیلا جانا، وقفہ وقفہ سے پھوٹ نکلنا، زور سے لگنا، ــ من: سے تیزی سے جانا، ــ آگے کو دھکیلا جانا، آگے کی طرف لے جایا جانا، چلنا۔ اِنْدَفَعَ: تیزی سے بڑھنا، لپکنا، جانا، تندی سے تیزی سے، بے دھڑک، بے سمجھے بوجھے، اندھوں کی طرح یا پیش بینی کے بغیر آگے بڑھنا، بہت تیز ہونا، بہت جوشیلا یا تیز مزاج ہونا، ــ فی: میں یکا یک سر کے بل یا اندھا دھند کود پڑنا۔ ــ الـی: کی طرف تیزی سے جانا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر، دبوچ لینا، کے پاس جلدی سے جانا، ــ لِ: اپنے آپ کو کسی کے سامنے گرفتاری وغیر کے لئے پیش کرنا، ــ من: سے پھوٹ نکلنا، بہنا، جاری ہونا، دھار بن کر نکلنا، پھوٹ بہنا، یکا یک نکلنا، پانی کا) اندفع وراء: سے مغلوب ہو جانا، (جیسے ــ وراء شهواته: اپنی جسمانی خواہشات سے) ــ وراء شعوره: اپنے احساسات سے وراء العاجلة: دنیاوی چیزوں سے مغلوب ہو جانا، بے خود ہو جانا۔ یفعل: کچھ کرنے لگنا، اِسْتَدْفَعَ ه ب: سے کے ذریعہ بچنے کی کوشش کرنا، کو سے روکنے کی کوشش کرنا، دفع: پیچھے دھکیلنا، ایک طرف کرنا م پسپا کرنا، دور لیجانا، دور کرنا، زائل کرنا، دفع کرنا، اڑا لیجانا، روکنا، ٹال جانا، کو روکنا، (سے) بچنا، پسپا کرنا، استرداد، نامنظوری، قطع تعلق، انکار، تردید، تغلیط حوالے کرنا، ادائیگی، دُفْـعَة: جمع دُفُعات و دُفَعات: ایک بار جاری ہونے والا، سرتوڑ زور، پھٹنا، دھماکہ، غیر متوقع وقوع، پھوٹنا، شق ہونا، غـلـغـلـه: فوارہ، ولولہ، جوش، زور وغیرہ وقت، واقعہ، دُفْعَةً واحـدةً: بیک وقت، دفعۃً، یکا یک، اک دم، جھپٹا مار کر۔ هـذه الـدفعة: اس بار اس دفعہ۔ سِتَّ دُفْعات: چھ بار، مرتبہ، دفعہ عـلـى دفعات مُتَفَاوِتة: مختلف اوقات میں۔ دَفَّـاع: آگے کو دھکیلنے والا، دھکیلنے والا تحریک دینے والا پسٹن (Piston) مِدْفَع: جمع مَـدافِـع: بندوق، رائفل، توپ، مَـدافِـعُ بـعـيـدة الـمَرْمَى: دور مار رائفلیں، توپیں، مِـدْفَع رشاش: مشین گن، مَـدَافِـعُ ضَـخْـمة: بھاری توپ خانہ، بھاری توپیں۔ الـمـدافع المضادة للطائرات یا المدافع المقاومة للطائرات: طیارہ شکن توپیں۔ مـدفـع ثـلاثـى مضادٌ للطائرات: تین نالی طیارہ شکن توپ، مدفع هاون: مارٹر (mortar)، چھوٹی بالا انداز توپ۔ مِدْفَعِي: بندوق کا، رائفل کا، توپ کا، توپ خانہ کا، توپچی، توپ خانہ کا سپاہی، مِـدْفَـعِيَّة: توپ خانہ، توپیں۔ دِفـاع: حفاظت۔ ــ عن: کا دفاع، خَـطُّ الـدفـاع: خط دفاع، دفاعی خط، دفاعی لائن، ہاف بیک (Half Backs) مـجـلـسُ الـدفـاع: دفاعی کونسل، وزارة الـدفـاع: وزارت دفاع، وزارت جنگ۔ الـدفـاع الـوطـنـى: قومی دفاع، ملکی دفاع، الـدفـاع الـمـضاد للطائرات: طیارہ شکن دفاع، شـرعـيٌّ: جائز یا قانونی حفاظت ذات، دِفَـاعِيّ: مدافعانہ، دفاعی، محافظ، مُـدَافَعَة عن: کا دفاع، اِنْدِفَاع: جمع انـدفاعات فی: میں یکا یک کود پڑنا، چھلانگ یا چھلانگ لگانا۔: پھٹ پڑنا پھوٹ پڑنا، پھٹنا، قوت، ولولہ، جوش جھپٹ، تیز حرکت، پرجوش عمل، تیزی، اندھا دھند کام کرنا، جلد بازی، عاقبت نا اندیشی، تیز مزاجی، جوشیلا پن، بہتات، کثرت، افراط، ریل پیل، پرزور ہونا، اپنے آپ سے بے اعتبالا پروائی، اِنْدِفاعًا: خود بخود، طبعی طور پر، اِنْـدِفَـاعَة: (اچانک) پھوٹ پڑنا، شروع ہو جانا، (گریہ وزاری کا) دَافِـع: مادے کو خارج کرنے والا، دافع، دفع کرنے والا، پیچھے ہٹانے والا، ہانکنے والا، لیجانے والا، دھکیلنے والا، دھکا دینے والا، قوت دینے والا، تیزی دینے والا، محرک، ترغیب دینے والا، باعث اشتعال، حرکت میں لانے کی قوت رکھنے والا، دھکیلنے یا چلانے والا، آگے بڑھانے والا، دھکا دیکر بڑھانے والا، جوش دلانے والا، پسپا کرنے والا، ادا کرنے والا ادائیگی کرنے والا، جیسے دافعـو الـضرائب: ٹیکس دینے والے، ٹیکس ادا کرنے والے (جمع دوافـع) محرک، تحریک مہمیز، وجہ تحریک، سبب حرکت، نیت، منشا، مقصد، بِـدَافِع: سے تحریک پا کر، کی وجہ سے، کے باعث کی سند سے بسند، مَـدْفُـوعات: ادائیگیاں۔ مُـدَافِعٌ عن: کا حامی، محافظ، ناصر۔

دفق: ۱۔ دَفَقَ ـ دَفْـقًـا الـماءَ: پانی کو زور سے گرانا، ــ الكوزَ: کوزے کی چیز کو گرا کر خالی کرنا۔ ـ دَفْقًا و دُفُوقًا الماءُ: پانی کا گرنا، ـ النهرُ: دریا کا لبالب بھر کر پانی کناروں سے باہر نکلنا، (لیـث نے تن تنہا اسے لازمی استعمال کیا ہے جبکہ جمہور کے نزدیک یہ متعدی استعمال ہوتا ہے)۔

دَفَّقَ: دفق سے مبالغہ کا صیغہ۔ کہا جاتا ہے: دَفَّـقَت كفاه الـعطاءَ: اس کے دونوں ہاتھوں نے بخشش بکثرت لٹائی۔ اَدْفَقَ الكوزَ: کوزے کو چیز سے خالی کر دینا۔ تَـدَفَّقَ الماءُ: پانی کا گرنا۔ ــ ت الدابَّةُ: جانور کا تیز دوڑنا۔ کہا جاتا ہے: فـلانٌ يَتَـدفَّقُ فی الباطل: فلاں شخص باطل میں تیزی و سبقت کرتا ہے۔ اِنْـدَفَقَ الماءُ: پانی کا گرنا۔ اِسْتَدْفَقَ الماءُ: پانی کا گرنا۔ الـدُّفْـقَة: ایک دفعہ یکبارگی۔ کہا جاتا ہے جـاؤوا دُفْـقَةً: وہ سب ایک دم آ گئے۔ سَـيْـلٌ دُفَّـاقٌ: زبردست سیلاب جو وادی کو دونوں کناروں تک بھر دے۔ سيرٌ اَدْفَق مونث دَفْقاء: تیز رفتار۔ الدِفِقَّى: تیز چال (کہا جاتا ہے: مشـى الدِفِقَّى: وہ تیز چال چلا) ــ و الدِفِقَّة: تیز چلنے والی اونٹنی یا گھوڑا۔

۲۔ دَفَقَ ـ دَفْقًا الله روحه: اللہ تعالیٰ کا کسی کو موت دینا۔

۳۔ الأَدْفَق مونث دَفْـقَـاء: ٹیڑھا، کوزہ پشت (خواہ غم و فکر سے یا بڑھاپے کے سبب)۔

○ دَفَقَ ـ دَفْـقًا ه: کو انڈیلنا، بہانا، دھار باندھ کر ڈالنا، گرانا، ــ ـ دَفْقًا و دُفُوقًا: گرنا، بہنا، پھوٹ نکلنا، دھار بن کر نکلنا، پھوٹ بہنا، زور سے نکلنا، ــ ه: میں بکثرت ہونا، تَـدَفَّقَ: گرنا، بہنا، پھوٹ نکلنا، دھار بن کر نکلنا، پھوٹ بہنا، زور سے نکلنا، تیزی سے جانا، یکا یک پھیلنا، زور سے داخل ہونا، توڑ کر نکل جانا، گولی چلنا، چھوٹنا، ــ الی /فی: میں اندھوں کی طرح یا بے سوچے سمجھے کود پڑنا، ــ علی: میں ہجوم کرنا، بھیڑ کرنا، اِنْدَفَقَ: بمعنی تـدفَّق ـ دَفْق: پھیل جانا (بھر کر)، بہاؤ۔ دُفْقَة: جمع دُفُقَات و دُفَقَات: بمعنی دفعةً ـ دُفْقَةً واحـدَةً: بمعنی دفعة واحـدة ـ دفقات الـريح: ہوا کے جھکڑ دفقة من الـماء: پانی کا پھوٹ نکلنا یا زور سے نکلنا، دَفَّـاق: زور سے پھوٹ پڑنے والا، یکا یک ظاہر ہونے والا، تیزی سے لڑنے والا، دوڑ پڑنے والا۔ تَدَفُّق: بہہ نکلنا، بہہ جانا، آگے بہہ نکلنا، نکلنا، جاری ہونا، پھوٹنا، روانی، خروج، بہاؤ، پھیلاؤ، باہر کی جانب بہاؤ، ریزش، ریل پیل، زیادتی ہجوم، بہتات، روانی، رفتار، جھپٹنا، ٹوٹ پڑنا، گھس جانا، دوڑ، جھپٹ، ہلہ، گرم بازاری، امنڈ آنا، امنڈ کر آنا، سیلاب پھوٹ پڑنا، ابل پڑنا، جلد بازی، اضطراری حالت، لبریزی، فروانی، وفور، پرجوش پرزور ہونا، بہانے والا ہونا، دَافِق: جمع دَوَافِق: پھوٹ بہنے والا، پھوٹ پڑنے والا، ابل پڑنے والا، نکلنے والا، پھٹنے والا، پھوٹ نکلنے والا، ابلنے والا، زور سے اچھلنے والا، فوارہ کی طرح بہنے والا، طوفان کی طرح اٹھنے والا، سیلاب کا سا، بہت زور کا، تند، پرشور، مُتَدَفِّق: محرک، تحریک کنندہ، جلد باز، فراوان، لبریز،

بافراط، بہت، بکثرت، پرجوش، پرزور۔

دفل: الدِفْل: تارکول، رال، گندہ بروزہ، قطران، کولتار، بحرروم کی ایک جھاڑی جس میں سرخ سفید یا پیازی رنگ کے پھول لگتے ہیں اور پتے سخت ہوتے ہیں۔ الدِفْلَی (ن): کیڑ۔ اس کا الف مقصورہ بعض کے نزدیک الحاقی ہے لہٰذا اس پر تنوین تنکیر آ جائے گی اور بعض کے نزدیک تانیث کا ہے لہٰذا تنوین نہیں آئے گی۔

دفن: ا۔ دَفَنَ۔دَفْنًا المیتَ: مردہ کو دفن کرنا، ۔ الحدیثَ: بات کو چھپانا، تَدَفَّنَ و اِنْدَفَنَ: چھپنا۔ تَدَافَنَ القومُ: ایک دوسرے سے چھپانا، اِدَّفَنَ العبدُ: غلام کا آقا کے خوف سے بھاگ کر روپوش ہونا صفت: دُفُون ۔ الشیء: کو چھپانا، الدَفْن: جمع اَدْفَان: دفن کیا ہوا۔ ۔: جمع دُفْن: مدفون زمین۔ داءٌ دِفْنٌ و دِفْنٌ و دَفِينٌ: وہ بیماری جو پوشیدہ ہونے کے بعد ظاہر ہو کر خرابی پیدا کرے۔ دَافِنُ الأمر: معاملہ کا اندرونی حصہ۔ الدَفِین: جمع دُفُن و دُفَنَاء و اَدْفَان: دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا، دفن شدہ، حوض۔ امرأةٌ دَفِین: جمع دَفْنَی: چھپی ہوئی عورت رکِیَّةٌ دَفِینٌ: دفن کیا ہوا کنواں۔ کہا جاتا ہے: ھو دفینُ المروءَۃ او دَفْنُ المروءۃ: وہ بے مروت ہے۔ الدِفَان: جمع دُفُن من الرکایا: وہ کنواں جس کا کچھ حصہ مٹی کے نیچے دب گیا ہو۔ ماءٌ دِفَانٌ: پوشیدہ پانی۔ مدفون پانی۔ المَدْفِن: دفن کرنے کی جگہ۔ الدَفِینَۃ: جمع دَفَائِن: گاڑی ہوئی چیز، خزانہ (زمین میں گڑا ہوا) کہا جاتا ہے۔ فلانٌ یُثِیرُ الدفائِنَ: وہ بڑی گہری عقل و سمجھ والا ہے۔ الدِفَّانۃ (ز): زمین کے درمیان چٹان جس میں ہل کی پھال پھنس کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی سے ضرب المثل ہے: الدِفانۃ تکسر السکۃ: چٹان ہل کا پھل توڑ دیتی ہے۔ یعنی پوشیدہ نیت کا اس شخص سے چھپانا جو اس سے واقف نہ ہو، تکلیف دہ ہوتا ہے۔

۲۔ دَفَنَ۔دَفْنًا الابلَ: اونٹوں کو تیز چلانا، ۔ ت الابلُ: اونٹوں کا تیز چلنا۔ تَدَفَّنَ و اِنْدَفَنَ ت الابلُ: اونٹوں کا تیز رفتار سے چلنا۔

۳۔ الدفینۃ: چالاک، ذہین، سمجھدار، ماہر، آزمودہ کار، الدَفَافِین: واحد دَفَّان: کشتی کے تختے۔ المَدْفُونَۃ (ط): سبزی اور چاول سے پکایا ہوا ایک قسم کا کھانا۔

۴۔ الدِفْنِس و الدِفْنَاس: بے وقوف، کمینہ، ۔ من النساء: احمق، بھاری جسم کی عورت۔

○ دَفَنَ۔دَفْنًا ہ: کو دفن کرنا، مٹی میں دبانا، گاڑنا، کو قبر میں اتارنا، مٹی دینا، ۔ ہ: کو چھپانا، پوشیدہ رکھنا، دَفْن: دفن کرنا، قبر میں اتارنا، تدفین، مٹی میں دبانا، کفن دفن، دَفِین: جمع دُفَنَاء: دفن کیا ہوا، قبر میں اتارا ہوا، مٹی میں دبایا ہوا، چھپایا ہوا، پوشیدہ دَفِینَۃ: جمع دَفَائِن: چھپایا ہوا خزانہ، دفینہ جو زمین سے برآمد ہوا اور جس کے مالک کا پتہ نہ ہو۔ مَدْفَن: جمع مَدْفَنَۃ: جمع مَدَافِن: دفن کرنے کی جگہ، قبرستان، گورستان۔

دفا: ا۔ دَفَا۔ دُفُوًّا و دَافَی مُدَافَاۃً و اَدْفَی اِدْفَاءً الجریحَ: زخمی کو جلد مار کر ختم کر دینا۔ تَدَافَی ہُ: کا تدارک کرنا، کی تلافی کرنا۔

۲۔ اَدْفَی الظبیُ: ہرن کا لمبے سینگوں والا ہونا۔ طائرٌ اَدْفَی: لمبے بازوؤں والا پرندہ۔ ناقۃٌ دَفْوَی: لمبی گردن والی اونٹنی۔ شجرۃٌ دَفْوَاء: بڑا درخت۔

۳۔ الدَفَا: خمیدگی، جھکاؤ، الأَدْفَی: مؤنث دَفْوَاء: خمیدہ، ٹیڑھا، منحنی، عُقَابٌ دَفْوَاء: ٹیڑھی چونچ والا یا مڑی ہوئی چونچ والا عقاب۔

○ دفایۃ: دیکھو دفیء

دق: ا۔ دَقَّ۔دِقَّۃً: باریک ہونا، چھوٹا ہونا۔ ۔ دَقًّا الشیءَ: کو توڑنا۔ ۔ البابَ: دروازہ کھٹ کھٹانا۔ ۔ الشیء علی الشیء او بالشیء: ایک چیز کو دوسری چیز پر کوٹنا، کچلنا، دَقَّقَ الشیءَ: کسی چیز کو کوٹ کر باریک کرنا، کسی چیز کو باریک کوٹنا، اَدَقَّ اِدْقَاقًا ہُ: کو باریک کرنا۔ ۔ الرجلُ: بخل سے حقیر چیز کا پیچھا کرنا۔ اِنْدَقَّ اِنْدِقَاقًا: باریک ہونا، ٹوٹنا، کھٹکھٹایا جانا۔ ۔ ت عنقُہُ: کی گردن ٹوٹ جانا۔ اِسْتَدَقَّ اِسْتِدْقَاقًا: باریک یا پتلا ہونا۔ استدق الھلالُ: چاند کا باریک ہونا، الدِق: باریک، تھوڑا۔ اسی سے ہے: اَخَذْتُ دِقَّہُ و جِلَّہُ: میں نے اس کا تھوڑا بہت سب لے لیا۔ حُمَّی الدِق: دق کا بخار۔ الدُقَّۃ: باریک خاک، مصالحے، نمک، دھنیا، الدَقَّۃ: دق سے اسم مرۃ، ایک دفعہ کا توڑنا، باریک کرنا، کھٹکھٹانا۔ الدِقَّۃ: توڑنے کی حالت، کھٹکھٹانے کی حالت۔ باریکی، چھوٹا پن، کمینگی، المِدَق و المُدُق: جمع مَدَاق و المُدَقَّقَۃ (ط): باریک کوٹا ہوا گوشت جو بھون لیا گیا ہو۔ کباب، عام لوگ اسے کَفْتَۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ (کوفتہ) الدُقَاق: ہر شے کا چورا، آٹا ۔ و الدُقَاقَۃ: نرم خاک جسے ہوا زمین سے اڑا لیجائے۔ دُقَاقُ و دِقَاقُ العیدان: لکڑی کی چھپٹیاں۔ الدقیق: جمع اَدِقَّۃ و اَدِقَّاء مؤنث دَقِیقَۃ: باریک، آٹا، تھوڑا۔ الدَقِیقَۃ: جمع دَقَائِق: الدقیق کا مؤنث: منٹ، گھنٹے کا ساٹھواں حصہ۔ الدَقَّاق: بہت کوٹنے والا، آٹا بیچنے والا۔ الدَقَّاقَۃ: کوٹنے کا اوزار۔ المِدَقَّۃ: کوٹنے کی موسلی یا دستہ، چھوٹی شیشی (عام لوگوں کی زبان میں) (ن) پھول کا مادہ عضو تناسل۔ المَدْقُوق (مفع): دق کے بخار کا مریض، دق کے بخار میں مبتلا، مُسْتَدَقُّ الساعِد: کلائی کا پہنچے سے ملنے والا حصہ، ۔ کلِّ شیء: ہر شے کا باریک اور پتلا حصہ۔

۲۔ دَقَّ۔دِقَّۃً: دشوار فہم ہونا، الدِقَّۃ (مص): ابہام، مبہم بات، اسی سے ہے۔ دِقَّۃُ المعانی: معانی کی باریکی، الدَقِیق: جمع اَدِقَّۃ و اَدِقَّاء: مؤنث دقیقۃ: دشوار فہم امر۔

۳۔ دَقَّ۔دَقًّا الشیءَ: کو ظاہر کرنا۔ دَقَّقَ فی الحساب وغیرہ: حساب وغیرہ میں گہرے غور و فکر سے کام لینا۔ دَاقَقْتُ مُدَاقَّۃً ہُ الحسابَ و فی الحساب: میں نے اس سے پورے غور و فکر سے حساب لیا۔ تَدَاقَّ الرجلان: آپس میں باریکی میں مقابلہ کرنا۔ الـدِقَّۃ: باقاعدگی، باضابطگی، درستی، باریک بینی، التدقیق عند العلماء: دلیل کا دلیل سے اثبات یا مسئلہ کا ایسی دلیل سے اثبات جو دشوار فہم ہو۔ چونکہ تحقیق مسئلہ کا دلیل سے اثبات ہے۔ اس لئے مُدَقِّق مُحَقِّق سے درجہ میں بالاتر ہے۔

۴۔ اَدَقَّ اِدْقَاقًا الرجلَ: کو بکری یا بکریاں دینا، کہا جاتا ہے: اتیتہُ فما ادقَّنِی ولا اَجَلَّنی: میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھ کو تھوڑا بہت کچھ نہیں دیا۔ الدَقِیقَۃ: بکریاں کہتے ہیں۔ کم دِقیقتکَ: تمہاری کتنی بکریاں ہیں۔

۵۔ دَقْدَقَ دَقْدَقَۃً الناسُ: لوگوں کا شور و غل مچانا۔ ۔ الدوابُّ: جانوروں کے سموں کی آواز سنائی دینا۔

○ دَقَّ۔دِقَّۃً: باریک ہونا، عمدہ ہونا، کمزور ہونا، نازک ہونا، بودا ہو، آسانی سے ٹوٹ جانے والا ہونا، جلد خراب ہو جانے والا ہونا، نازک بناوٹ والا ہونا، ناپائدار ہونا، چھوٹا ہونا، تھوڑا ہونا، ننھا سا ہونا، خفیف ہونا، ذرا سا ہونا، گہرا ہونا، بالکل ٹھیک ہونا، ہلکا ہونا، سبک ہونا، لطیف ہونا، باریک بین، دیدہ ریزی کرنے والا ہونا، غیر اہم ہونا، ادنی سا ہونا، ناچیز ہونا، ناقابل لحاظ ہونا، ناقابل غور ہونا، ۔ عن: ادراک کے لئے بہت لطیف و نفیس ہونا، بہت نازک ہونا۔ ۔ دَقًّا ہ: کو مسلنا، پیسنا، کچلنا، پامال کرنا، کو رگڑ پہنچانا، خراش لگانا، زخمی کرنا، کو کوٹنا، پیٹنا، مارنا، ہاون دستے سے کوٹنا، ریزہ ریزہ کر دینا، پیس ڈالنا، میدہ بنانا، سرمہ کر دینا، خاک میں ملا دینا، کا سفوف بنانا، (گوشت) کوٹنا، گھڑی یا گھنٹے کا (وقت) بجانا، (جیسے گھنٹے نے ۱۲ بجائے)

(دل کا) دھڑکنا، (انجن کا) دھڑ دھڑ کرنا) ۔ الباب: دروازکھٹکھٹانا، دستک دینا۔ ۔ راسَهُ بالحائط: دیوار سے سر ٹکرانا، دیوار سے سر دے مارنا، ۔۔۔ ہ: (کیل) ٹھونکنا، ۔۔۔ علی (کوئی موسیقی کا آلہ) بجانا، (ٹائپ رائٹر) پر ٹائپ کرنا ۔۔۔ دَقَّ الجَرَسَ: گھنٹی بجانا، دقت الساعةُ: گھڑی کا وقت بجانا، دق جرسَ الخَطَر: آلارم بجانا، دق الجرسَ علی: کو ٹیلی فون کرنا۔ دق الجرسُ: گھنٹی بجنا۔ دَقَّ ہ: کو پیس کر سفوف بنا دینا، کو پیسنا، کا میدہ بنانا، کو خاک میں ملا دینا، کو سفوف میں تبدیل کر دینا، ۔۔۔ فی: میں ٹھیک ٹھیک ہونا، صحیح ہونا، درست ہونا، قطعی ہونا، سخت محتاط ہونا، صحیح ہونا، جفاکش ہونا، انتہائی درستی یا احتیاط سے آگے بڑھنا۔ ۔ ہ: کو جانچنا، کی تحقیقات کرنا، کا جائزہ لینا، کا صحیح تعین کرنا، (کوئی کام احتیاط اور صحت و درستی سے کرنا، دَقَّقَ البحثَ: احتیاط سے تحقیقات کرنا، چھان بین کرنا، تفتیش کرنا، تلاش کرنا، کھوج نکالنا، دَقَّقَ النظر فی: کو توجہ یا احتیاط سے نظر میں رکھنا، کو جانچنا کی دیکھ بھال کرنا، کا امتحان کرنا، کی تحقیقات کرنا، کا دھیان یا غور سے جائزہ لینا۔ دَقَّقَ الملاحظةَ: غور سے یا دھیان سے دیکھنا، یا مشاہدہ کرنا، ۔۔۔ داقق ہ: حزم واحتیاط سے کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ اَدَقَّ ہ: کو باریک کرنا، عمدہ و نفیس بنانا، اِنْدَقَّ: کچلا جانا، کوٹا جانا، ٹوٹنا، پیٹا جانا، ہاون دستے سے کوٹا جانا۔ اِنْدَقَّ عُنُقُهُ: اس نے اپنی گردن توڑ لی۔ اِسْتَدَقَّ: باریک اور نفیس ہونا یا ہو جانا، دَقٌّ: کچلنا، خراش ڈالنا، رگڑنا، زخمی کرنا کوٹنا، پیٹنا، مارنا، ہاون دستے سے کوٹنا، سفوف کر دینا، سرمہ بنا دینا، ریزہ کرنا، تحلیل، پسائی، سفوف بن جانا، باریک پیسنا، کچل ڈالنا، کچومر نکالا دینا، بھرکس نکال دینا، دھڑکن دھڑکنا، دھڑ دھڑ کرنا، دستک دینا، دروازہ کھٹکھٹانا، جسم کو گود کر نقش بنانا، دَقُّ الجَرَسِ: ٹن ٹن، گھنٹی کی جھنکار، گھنٹی کی آواز۔ دَقُّ الحَنَك: بک بک، چپڑ چپڑ، کھٹ کھٹ، کٹ کٹ، طفلانہ گفتگو۔ دِق: عمدہ، نفیس، باریک تھوڑا، چھوٹا، ننھا سا، حقیقت، بہت چھوٹا سا، بالکل، معمولی، ذرا سا، بالکل ٹھیک، نازک، بودا، کمزور، آسانی سے ٹوٹ جانے والا، جلد خراب ہو جانے والا، نازک بناوٹ والا، ناپائیدار، مریض، شجرُ دِق: جھاڑیاں، جھاڑ جھنکاڑ، حمّی الدق: دق کا بخار۔ دَقَّة: جمع دقّات: دستک، دھڑکن (دل کی)، دھڑ دھڑ (انجن کی) گھنٹے کا بجنا، گھن، ہتھوڑا، موگری، ٹھونکنے ہتھوڑے سے یا گھن سے مارنے کی آواز، گھونسا، دھپا، تھپڑ، گھونسا مارنا، دھپا مارنا، دقّات القلب: دل کی دھڑکنیں، دقّة الجرس: گھنٹی کی آواز، ٹیلیفون کی گھنٹی، دِقَّة: باریکی، نفاست، عمدگی، قلت، کمی، ہلکا پن، چھوٹا پن، باریک بینی، دقیقہ سنجی، فقیر ہونا، کمینہ پن، فرومایگی، کم مائگی، بے حقیقت ہونا، معمولی ہونا، لطافت، نزاکت، پراندیشہ یا خطرناک حالت، نازک، صورت حال، درستی، صحت، مطابقت، باقاعدگی، بدقة: بعینہ، ہو بہو، درستی سے، صحت کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، من و عن، بالکل ٹھیک، نکتہ، موشگافی سے، محنت سے جفاکشی سے، سخت احتیاط سے، سختی سے تیزی سے، دِقَّةُ الشعور: احساس کی شدت، زود حسی، سریع الحسی، ذہانت، فراست، عقل و شعور، دُقَّة: جمع دُقَق: عمدہ یا نفیس خاک، پاؤڈر، دُقَاق: کچلا ہوا، کوٹا ہوا، پیٹا ہوا یا پیسا ہوا، سفوف بنا ہوا، یا میدہ بنایا ہوا مادہ، پاؤڈر، لوپن پودے کا آٹا (لوپن Lup in or Lupine) باغوں میں اگنے والا ایک پودہ ہے۔ اس کا تنا لمبا اور نوکیلا ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے مختلف رنگ کے پھول لگتے ہیں۔

دَقِيق: جمع دِقَاق و اَدِقَّة: عمدہ، نفیس، باریک، نازک، ناپائیدار، بودا، کمزور، بیمار، آسانی سے ٹوٹ جانے والا، جلد خراب ہو جانے والا، نازک بناوٹ والا، چھوٹا، تھوڑا، ننھا سا، حقیر، ادانی، خفیف، بہت چھوٹا سا، بالکل معمولی، ذرا، بالکل ٹھیک، ہلکا، لطیف، بے حقیقت، قلیل، معمولی، سطحی بے کیف، ناچیز، ٹھیک، صحیح، بے کم و کاست، باقاعدہ، باضابطہ، بالکل واضح، صاف، قطعی، درست، محنتی، جفاکش، محتاط، باریک بین، صحت پسند، صداقت پسند، جزئیات کا خیال رکھنے والا، سخت محتاط، بہت زیادہ غور و خوض سے کام لینے والا، سخت بے رحم، سنگدل، بے مہر، سخت، کٹھن شدید، نازک (صورتحال) پراندیشہ، تشویشناک بحرانی، تکلیف دہ، دشوار، صبر آزما، سنجیدہ، مخدوش، قابل فکر، پرخطر، خطرناک، مشتبہ، آٹا، بیسن، نشاستہ، ستو، غذا۔ دقیق الحساب: سخت حساب رکھنے والا، سخت، بے رحم، دقیق الشعور: ذی حس، حساس، زود رنج، زود اثر، دَقِيقُ الصُنع: عمدہ طور پر یا نفاست سے کیا ہوا، نازک کاریگری کا۔ دَقِيقُ النظر: صاف دیکھنے والا، زود فہم، معاملہ فہم، دانشمند، صاحب بصیرت، زیرک، ہوشیار، ذی شعور، ذی حس، حساس۔ ابو دقیق: تتلی۔ الاعضاءُ الدقیقة: اعضاء تناسل، دَقِيقَة: ذرہ، ٹکڑا، ریزہ، خفیف مقدار، غیر معمولی چھان بین، باریکی، نزاکت، نازک فرق، احتیاط، اشکال، الجھاؤ، دشواری، پیچیدگی، تفصیل، مفصل، کیفیت، منٹ، دقائق الامور: معاملات کی نازک تفاصیل، یا پیچیدگیاں یا خفیہ مضمرات، دَقَّاق: پیسنے والا، کچلنے والا، آٹا بیچنے والا، اکثر یا ہمیشہ دھڑکنے والا، کوئی ساز بجانے والا، ساعة دَقَّاقَة: گھڑی۔ دَقَّاقَة: دستک دینے والا، دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ اَدَقّ: زیادہ عمدہ، زیادہ نفیس، زیادہ نازک، زیادہ چھوٹا، زیادہ باریک، زیادہ صحیح، زیادہ درست، زیادہ سخت، مِدَق: موگری، سفوف بنانے والا، ہاون دستہ، موسل، گھنڈی، فٹ پاتھ، مِدَقَّة: جمع مَدَاق: موگری، سفوف بنانے بنانے والا، ہاون دستہ، گھنٹے کا ٹلکن، (گھنٹی کا) ٹلکن، تدقیق: صحت، درستی، انتہائی صحت، جچا تلا ہونا، بِتَدْقِيق: بالکل ٹھیک، واقعی، درستی سے، صحت کے ساتھ، نکتہ سنجی سے، موشگافی سے، مُدَقِّق: کھرا اچھا (عالم)، پرلے درجے کا محقق یا مفتش (تحقیق کرنے والا، تفتیش کرنے والا) بے رحم، جزائیات کا خیال رکھنے والا، سخت محتاط، بہت زیادہ غور و خوض سے کام لینے والا محنتی، جفاکش، مُدَقَّق: ٹھیک ٹھیک (معلومات) درست یا قطعی (مانی، جانی ہوئی یا معلوم بات)

دقر: ۱۔ دَقِرَ دَقَراً: کھانے سے بھر جانا۔ ۔ النباتُ: سبزہ کا بکثرت ہونا، ۔۔۔ المکانُ: کسی جگہ کا سرسبز و شاداب ہونا، الدَّقْرُ و الدَّقْرة و الدَّقِيرة و الدَّقَرَى: خوشنما منظر والا، ہرا بھرا باغ، ارضٌ دَقْرَاء: سرسبز و شاداب اور تر زمین۔

۲۔ دَقَّر البابَ: دروازہ بند کرنا مگر کنڈی نہ لگانا جس سے دروازہ (چابی کے بغیر) کھل جائے (عام زبان کا لفظ)

۳۔ الدُّقْران: واحد دُقْرانَة: لکڑی جس کو نصب کر کے انگوروں کی بیل چڑھائی جائے۔ الدَّوْقَرة: پہاڑوں کے درمیان بنجر زمین۔ الدِّقْرارة: جمع دقارير: چغلی (کہا جاتا ہے: رجلٌ دِقرارة: چغل خور آدمی) بری عادت، جھگڑا، (کہا جاتا ہے: جاء بالدقارير: اس نے قبیح جھوٹی باتیں بکیں۔)

○ دَاقِرة: جمع دَوَاقِر: مٹی کا برتن، غیر مراعات یافتہ طلبہ کے لئے وظیفہ (ٹیوشن میں)

دقس: دَقَسَ دَقْسًا و دُقُوسًا فی البلاد: ملک میں گھس جانا، الوتدُ فی الارض: میخ کا زمین میں گڑ جانا، ۔ البئرَ: کنویں کو بھرنا۔

دقش: الدُّقْشَة (ح): گرگٹ سے چھوٹا چتکبرا جانور۔

○ دُقْشُوم: ٹوٹے ہوئے اینٹ پتھر، ملبہ، روڑے کنکر، اینٹ کے ٹکڑے، روڑی، بجری، پتھری۔

دقع: دَقِعَ ـَ دَقَعًا: تھوڑے سے گذارے پر راضی ہونا، فقر و ذلت سے خاک نشین ہونا، بدحال ہونا، اَدْقَعَ ہٗ: کو مفلس بنانا، ذلیل کرنا، ــــ به واليه في الشتم ونحوه: کو گالی دینے وغیرہ میں زیادتی سے کام لینا، ــــ الرجلُ: مٹی میں ملا ہوا ہونا۔ الدَّقْع: حاجت طلب کرنے میں جھکنا اور اس میں لالچ کرنا، الداقِع (فا): غمگین، تھوڑی روزی کا خواہاں۔ ــــ الادقع: مٹی خاک۔ جوعٌ اَدْقَع: سخت بھوک، المُدْقِع: مٹی سے لگا ہوا، ذلیل، دبلا، بھاگنے والا۔ جوعٌ مُدْقِع: سخت بھوک۔ الدَّقاعَ و الدُّقاع و الدِّقْعَم: (میم کی زیادتی سے) مٹی، خاک۔ المِدْقاع جمع مَداقيع: کی پر راضی ہونے والا، حریص، لالچی۔ الدَّقْعاء: مٹی، خاک، بنجر زمین۔ الدَّقْعَى: کہا جاتا ہے۔ رأيتُ القوم صَقْعَى دَقْعَى: میں نے لوگوں کو زمین سے چمٹے ہوئے دیکھا۔ الدَّيْقوع: سخت بھوک، الدَّوْقَعَة: مفلسی، غربت، ذلت۔

○ دَقِعَ ـَ دَقَعًا: اپنی خودی کا جنازہ نکالنا، جھکنا، عاجزی کرنا، لجاجت کرنا، سخت غمزدہ ہونا، سخت بری حالت میں ہونا، مصیبت زدہ ہونا، غریب مسکین ہونا، عاجز و منکسر المزاج ہونا، گرا ہوا ہونا، غربت کی زندگی بسر کرنا، اَدْقَعَ: بمعنی دَقِعَ نیز ہٗ: غربت کا کسی کو سخت بری حالت میں لانا۔ اِدقاع: عام غربت۔ مُدْقِع: سخت بری حالت میں، مصیبت زدہ، ذلیل کرنے والی غربت۔

دقل: دَقَلَ ـُ دَقْلاً ہٗ: کو روکنا، محروم کرنا، کے ناک یا منہ پر مارنا، ـ دُقُولاً: غائب ہونا، ـ فيه: میں داخل ہونا۔ اَدْقَلَ الرجلُ: چھوٹے اور کمزور بچے والا ہونا، ـ ت الشاةُ: بکری کا دبلی و کمزور ہونا، صفت: مُدْقِل ــــ النخلُ: کھجور کے درخت کا خراب و ردی پھل لانا، الدَّقَل: ردی اور ادنی قسم کی کھجور، بادبان کا ڈنڈا۔ کہا جاتا ہے۔ أراك اطولَ من الدَّقَلِ وانت تنثر كلامك نثر الدَّقَل: میں دیکھتا ہوں کہ تم بادبانی ڈنڈے سے بھی زیادہ دراز ہو اور گفتگو بھی ردی و ناکارہ کرتے ہو۔

○ دَقَل: (جہاز کا) مستول، بڑا مستول، ـ: (اسم جنس واحد) دَقَلَة: اچھی قسم کی کھجوروں کی قسم۔

دقم: ا۔ دَقَمَ ـُ دَقْمًا ہٗ: کے سینہ پر مار کر دھکا دینا کے دانت توڑنا، دَقِمَ ـَ دَقَمًا: کے سامنے کے دانتوں کا گرنا صفت: دَقِم و اَدْقَم۔ اَدْقَمَ فاهُ: کے اگلے دانتوں کو توڑنا۔ الدَّقَمَة: منہ کا اگلا حصہ۔

۲۔ دَقَمَ ـُ دَقْمًا الريحُ عليه: پر ہوا کا آنا۔

۳۔ الدَّقْم: قرض وغیرہ کا سخت غم۔

دقن: دَقَنَ ـُ دَقْنًا ہٗ: کو منع کرنا، محروم کرنا، ــــ في لَحْيِ الرجل: کی ٹھوڑی پر مکا رنا۔

دكّ: ا۔ دَكَّ ـُ دَكًّا الحائطَ: دیوار کو گرا کر زمین کے برابر کرنا۔ ـ الارضَ: زمین کی اونچ نیچ نکال کر اس کو ہموار کرنا۔ ـ الترابَ: مٹی کو کوٹ کر برابر کرنا۔ ـ البئرَ: مٹی ڈال کر کنویں کو پاٹ دینا۔ ــــ الترابَ على الميت: میت پر مٹی ڈالنا، اِنْدَكَّ: ہموار ہونا، ــــ الرملُ: ریت کا تہ بہ تہ ہونا۔ ـ السَّنامُ: کوہان کا پیٹھ کے برابر ہونا۔ الدُّكّ: جمع دِكَكَة و الدَّكّاء: جمع دَكّاوات: پست پہاڑ، نرم مٹی کا ٹیلہ۔ الدَّكّ (مص): جمع دُكُوك: ہموار زمین، ہموار جگہ، الدَّكَّة: جمع دِكاك: ہموار ریتلا میدان۔ بیٹھنے یا کرسی رکھنے کیلئے ایک چبوترہ۔ الدُّكّان: جمع دَكاكين: (فارسی لفظ) چبوترہ، دکان، الأَدَكّ: (جس کا اسم الدَّكَك ہے جمع دُكّ و دُكُك مونث دَكّاء (ح): چوڑی پیٹھ والا پست قد گھوڑا۔ يومٌ دَكِيك: پورا دن (اسی طرح مہینہ اور سال کو بھی دَكِيك کہا جاتا ہے)۔ المِدَكّ: ہموار کرنے کا آلہ، مضبوط قوی ہیکل آدمی۔ اَمَةٌ مِدَكَّة: کام کرنے میں مضبوط چھوکری۔ الدَّكّاك: بہت کوٹنے پیسنے والا، بہت روندنے والا۔

۲۔ دَكَّ ـُ دَكًّا البارودةَ: رائفل یا بندوق لوڈ کرنا (عام لوگوں کی زبان میں) دَكَّكَ الشيءَ بالشيء: ایک چیز کو دوسری سے ملانا، مخلوط کرنا، دَكَّكَ السراويلَ في استعمال العامة: (عوامی استعمال میں) پتلون میں پٹی ڈالنا، پاجامہ میں ازار بند ڈالنا۔ تَداكَّ عليه القومُ: کے پاس لوگوں کا بھیڑ کرنا، ہجوم کرنا، الدِّكَّة: ازار بند، صحیح لفظ التِّكَّة: ہے۔ المِدَكّ: ازار بند ڈالنے کی سلائی۔

۳۔ دَكَّ ـُ دَكًّا ہٗ: کو دفع کرنا، دھتکار دینا، ــــ الدابَّةَ في السير: جانور کو چلا کر تھکانا، کہا جاتا ہے۔ دَكَّت الحمّى الرجلَ: بخار نے آدمی کو کمزور کر دیا۔ دُكَّ: بیمار ہونا۔

۴۔ دَكْدَكَ الحفرةَ: گڑھے کو مٹی سے بھرنا۔ تَدَكْدَكَت الجبالُ: پہاڑوں کا گر کر ہموار ہو جانا، الدَّكْدَك و الدِّكْدِك: جمع دَكادِك والدَّكْداك جمع دَكادِيك: سخت زمین۔

○ دَكَّ ـُ دَكًّا ہٗ: زمین یا سڑک کو چپٹا، یا سپاٹ کرنا، ہموار کرنا، برابر کرنا، یکساں کرنا، زور سے مارنا، (سڑک کے) پتھر کوٹنا، ــــ ہٗ: کو تباہ کرنا، برباد کرنا، منہدم کرنا، ویران کرنا، ـ: دبانا، بوجھ تلے پیس ڈالنا، سپاٹ کرنا، دَكَّكَ ہٗ: کو ملانا، خلط ملط کرنا، اِنْدَكَّ: کچلا جانا، ہموار ہونا۔ دَكّ جمع دُكُوك: ہموار زمین، تباہی، بربادی، انہدام۔ دَكَّة جمع دَكّات: روڑے، توڑے ہوئے پتھر، کنکر، دِكَّة: جمع دِكَك: بنچ، دُكّان: جمع دَكاكين: بنچ، سٹور، دکان، دُكّانجي: سٹور کیپر، دکاندار، پرچون فروش، خردہ فروش، مِدَكّ: جمع مِدَكّات: لوہے کی ڈنڈی، موگری، دھرمٹ، کٹائی کرنے والا، بھرائی کرنے والا،

دَكَّكَ ہٗ: پاجامے میں ازار بند ڈالنا، دِكَّة: بمعنی تِكَّة: ازار بند، ناڑا۔

دكت: الدِكْتاتُور: ڈکٹیٹر (لاطینی لفظ)

الدَكْتِيلُوغرافيا: ٹائپ رائٹر کے ذریعے لکھنے کا فن (یونانی لفظ)

○ دِكْتاتُورِيَة: آمریت۔ دِكْتاتُورِيّ: آمرانہ، دُكْتُور: جمع دَكاتِرة: ڈاکٹر، فاضل۔ دكتور في الحقوق: ایل ایل ڈی۔ دكتور في الطب: ایم ڈی۔ دُكْتُوراة: سند فضیلت، ڈاکٹریٹ، پی ایچ ڈی کی ڈگری، ڈاکٹر کا خطاب، الدكتوراة الفخريه: اعزازی ڈاکٹریٹ۔

○ دِكْرِيتُو: جمع دكريتات: فرمان، حکم فیصلہ، ڈگری۔

دكس: دَكَسَ ـُ دَكْسًا الشيءَ: کو بھرنا، ــ الشيءُ: تہ بہ تہ ہونا، ڈھیر لگنا، اَدْكَسَ المكانُ: کسی جگہ کا سبزی اگانا۔ الداكِس (فا): چھینک وغیرہ جس سے شگون لیا جاتا ہے۔ ــــ من الظباء: پیچھے سے آنے والا ہرن۔ الدُّكاس: اونگھ، الدَّكِيسَة من الناس: لوگوں کی جماعت، گروہ، الدَّوْكَس (ح): شیر، چوپایوں اور بکریوں کا بڑا ریوڑ۔

دكل: ا۔ دَكَلَ ـُ دَكْلاً الطينَ: لپائی کے لئے ہاتھ سے گارا جمع کرنا۔ ـ الشيءَ: کو روندنا۔ دَكَّلَ الدابَّةَ: جانور کو مٹی میں لوٹانا، الدَّكَلَة: پتلا گارا، الدَّكِيل: روندا ہوا۔

۲۔ تَدَكَّلَ: مغرور ہونا، خود کو بڑا جاننا، ــــ عليه: پر ناز کرنا، سے متکبرانہ سلوک کرنا، ــــ عنه: دیر لگانا، الدَّكَلَة: خود کو بڑا جاننے والے لوگ، طاقت کے بل بوتے پہ سلطان سے متاثر نہ ہونے والے۔

۳۔ الأَدْكَل: سیاہی مائل رنگ والا،

دكم: ا۔ دَكَمَ ـُ دَكْمًا الشيءَ: چیز کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ پر کوٹنا، ــــ فاه او انفهُ: کا منہ یا ناک توڑ دینا، ــــ ہٗ في صدره: کو اس کے سینہ پر مار کر ہٹانا، دَكَمَ ہٗ في راسه: کے سر میں سینگ مارنا، ــــ ہٗ في الشيء: کو چیز میں داخل کرنا۔ تَداكَمَ القومُ: ایک دوسرے کو ہٹانا، دھکیلنا۔

۲- الدُّكْمَة: سیاہی مائل رنگ۔

دکن ۱- دَكَنَ- دَكْنًا المتاعَ: سامان کو ترتیب دینا، اوپر نیچے چننا، دَكَّنَ المتاعَ: سامان کو ترتیب دینا، اوپر نیچے چننا، ـــ الدُّكَّانَ: دکان لگانا، جمانا، الدُّكَّان: جمع دَكَاكِين (فارسی لفظ) بنچ، چبوترہ، دکان، الدُّكَّني: دکان والا۔

۲- دَكِنَ- دَكَنًا: سیاہی مائل ہونا، صفت: اَدْكَن مونث دَكْنَاء جمع دُكْن- ـــ الثوبُ: کپڑے کا میلا اور مُیلا ہونا، الدُّكْنَة: سیاہی مائل رنگ۔

○ اَدْكَن: مونث دَكْنَاء جمع دُكْن: سیاہی مائل، سانولا (رنگ) داكن: سانولا، سانولے رنگ کا، اخضر داكن: سیاہی مائل سبز، اَصفر داكن: زردی مائل پیلا، سیاہ زرد رنگ کا کچھڑ رنگ کا۔

دل ۱- دَلَّ- دَلَالَةً و دُلُولَةً و دِلِّيلَى دِلِيلَى اِلى الشيءِ و عليه: کی تک راہنمائی کرنا، کو کا راستہ دکھانا، اَدَلَّ بالطریق: راستہ پہچاننا- اِسْتَدَلَّ علیه: کا نشان دریافت کرنا، پتہ دریافت کرنا، ـــ بکذا علی الأمر: سے کسی امر یا رائے پر پہنچنا سے کوئی بات سمجھنا، یقین کرنا- الدَّلّ: حالت سکون و اطمینان، اچھی خصلت۔

الدَّلَّة: ناز و نخرہ۔ احسان۔ الدَّلَال: وقار، الدَّلِيل: جمع اَدِلَّة و اَدِلَّاء و الدلالة: جمع دَلَائِل: جس سے رشد و ہدایت ملے، دلیل و حجت، رہنما، مرشد، گائڈ بک، سفر کے مرحلوں اور منزلوں پر مشتمل کاغذ، الدلالة: راہبر کی اجرت- الدُّلَّى و الدَّلِيلَة: کھلی سڑک واضح راستہ۔

۲- دَلَّ- دَلًّا و دلالًا و دَلَّ- دَلَالًا: ناز و نخرہ کرنا، ـــ ت المرأة علی زوجها: عورت کا اپنے شوہر پر بناوٹی جرأت دکھانا اور جھوٹی مخالفت کرنا- اَدَلَّ اِدْلَالًا علیه: کے ساتھ بیجا بے تکلفی سے پیش آنا، کی محبت پر بہت اعتبار کر لینا۔ اسی سے یہ قول ہے- دَلَّ فَأَمَلَّ: اس نے بیجا بے تکلفی کی یا محبت پر بہت اعتبار کیا؛ ر تکلیف دہ ہوا نیز کہا جاتا ہے- ھو یُدِلُّ بِهِ: وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے- تَدَلَّلَ علیه: سے گستاخی کرنا۔ ـــ ت المرأةُ علی زوجها: عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ ناز و نخرہ کرنا- اِنْدَلَّ: راستہ پانا، المُدِلّ (فا): اپنے اوپر اپنے سامان پر بھروسہ رکھنے والا، ـــ بالشجاعة: دلیر، جری، الدَّالَّة الدال کا مونث: ناز و نخرہ، جرأت- کہا جاتا ہے: له علیه دالة: اس کو اس پر ناز یا جرأت ہے۔ (وقار کیجیے سے) الدَّلَال (مص): ناز و نخرہ الدَّالُولاء: ناز کرنا۔

۳- دَلَّ- دَلًّا و دَلَالًا و دَلَّ- دَلَالًا الرجلُ: فخر و غرور کرنا، اپنی بخشش پر احسان جتانا- الدَّلَّة: احسان، الاَدَلّ: احسان جتانے والا۔

۴- اَدَلَّ اِدْلَالًا علی اقرانه: اپنے ساتھیوں کو اوپر سے دبا لینا، ـــ البازي علی صیده: باز کا اپنے شکار پر جھپٹا مارنا، اِنْدَلَّ الماءُ: پانی کا گرنا۔

۵- دَلَّلَ الدَّلَّالُ علی السلعة: دلال کا سامان کی بولی لگانا، سامان کو نیلام کرنا- الدَّلَّال: نیلام کرنے والا، دلالی کرنے والا، الدِّلَالَة: دلال کا پیشہ، دلال کا کمیشن۔

۶- دَلْدَلَ دَلْدَلَةً اعضاءه و اوراسَهُ: چلتے ہوئے اعضاء بدن یا سر کو ہلانا- تَدَلْدَلَ فی مشیه: چلتے ہوئے ہلنا، لڑکھڑانا، ـــ الشَّيءُ: لٹکتے ہوئے حرکت کرنا، ہلنا۔ الدُّلْدُل: بڑا کام، ـــ و الدُّلْدُوْل (ح): سیہ، خارپشت، الدَّلْدَال: اضطراب، قَومٌ دَلْدَال: لغزش بگام چلنے والے لوگ۔

○ دَلَّ- دَلَالَةً علی: کو کوئی چیز دکھانا، پر کچھ واضح کرنا، کی کی طرف توجہ دلانا، ـــ ه علی/الی: کی کی طرف رہنمائی کرنا، کو کی طرف لیجانا، کو کا راستہ دکھانا، ـــ علی: کو دکھانا، کا اشارہ کرنا، کو دیکھنا، کو انگلی سے بتانا، اشارہ کرنا، کا ثبوت دینا، کو ظاہر کرنا، بتانا، پر دلالت کرنا، کی طرف دلالت کرنا، کا مفہوم ہونا، کا ثبوت ہونا، کی تجویز پیش کرنا، کا خیال دلانا، ایما ظاہر کرنا، کی علامت ہونا، کی دلیل ہونا، کا اثر رکھنا، کا ثبوت فراہم کرنا، کی گواہی مہیا کرنا، کو ثابت کرنا، ـــ دلالا علی: سے عشوہ گری کرنا، ناز نخرے کرنا، ناز و ادا کرنا، اٹھلانا، دَلَّلَ علی: کو ثابت کرنا، کا ثبوت فراہم کرنا، ـــ علی ب: کی کے ساتھ تصدیق کرنا، توثیق کرنا، ـــ علی: کچھ بیچنا، نیلام میں پیش کرنا، کو نیلام کرنا، کی نیلامی بولنا، ـــ ہ: کو لاڈ سے بگاڑنا، کی حد سے زیادہ ناز برداری کرنا، کو بگاڑنا، کی عادتیں خراب کرنا، (بچہ) پر پیار سے ہاتھ پھیرنا، کو چومنا، کو بہت لاڈ پیار کرنا، اَدَلَّ علی: سے مناسب احترام کے بغیر پیش آنا، سے بیجا بے تکلفی سے پیش آنا۔ ـــ ب: پر فخر کرنا، مغرور و متکبر ہونا، تَدَلَّلَ علی: سے عشوہ گری کرنا، ناز نخرے کرنا، ناز و ادا کرنا، اٹھلانا، سے بیجا بے تکلفی سے پیش آنا، کو لاڈ سے بگاڑنا، کی حد سے زیادہ ناز برداری کرنا۔ ـــ: معلومات حاصل کرنا، شرمیلی ہونا، لجیلی ہونا، حیادار ہونا، ظاہرداری یا جذباتی طور پر پیش آنا، اِسْتَدَلَّ علی: کسی چیز کو دکھانے کے لئے کہنا، کے بارے میں معلومات کی درخواست کرنا، سے مطلع ہونا، آگاہ ہونا، ـــ علی: کے بارے میں اطلاع پانا، سے رہنمائی حاصل کرنا، ـــ ب: کے مطابق کرنا یا طرز عمل اختیار کرنا، ـــ علی من /ب: سے نتیجہ اخذ کرنا کہ......، ـــ من/ب علی: سے کے بارے میں نتائج اخذ کرنا۔ کے مطابق کرنا یا طرز عمل اختیار کرنا، ـــ علی من /ب: کے بارے میں سے اندازہ لگانا، دَلّ: مناسب، باوقار کردار، عشوہ گری، ناز۔ دَلَّة: جمع دِلَال: کافی بنانے کے لئے مڑی ہوئی ٹونٹی اور دستے کا برتن، عشوہ گری، نخرے بازی، لاڈ میں عادتیں بگاڑنا، ناز برداری، بگاڑ۔

دَلِيل: جمع اَدِلَّة و دَلَائِل و اَدِلَّاء علی: کی دلیل، نشانی، علامت، ثبوت، گواہی، ـــ: نشانی، نشان، علامت، علامت مرض، راہنما، رہبر، سیاحوں کا رہبر، (ہوائی یا بحری جہاز کا) پائلٹ، گائیڈ بک، (سیاحوں کی معلومات کے لئے طبع شدہ کتاب، رہنما رسالہ، رہنما یا رہبر کتاب، ڈائریکٹری، ٹیلیفون ڈائریکٹری، ریلوے رہنما کتاب، ٹائم ٹیبل، اقام الدلیل علی: کا ثبوت فراہم کرنا، کو ثابت کرنا، دکھانا، دلیل ظرفي: واقعاتی شہادت، قرائن پر مبنی شہادت، دلیل قاطع: پختہ ثبوت، فیصلہ کن شہادت، دوٹوک گواہی، قطعی شہادت، دَلَّال: نیلام کرنے والا، دلال، قرق شدہ مال بیچنے والا، متفرق کام کرنے والا، تاجر، دوکاندار، گماشتہ، کارندہ کارکن، منیم، آڑھتی، پھیری والا، خوانچے والا- دَلَالَة: جمع دَلَالَات: اشارہ کرنا، رہنمائی، نشانی، علامت، معنی، مفہوم، ـــ علی: کی دلیل، کا نشان، کی علامت، دِلَالَة: نیلامی، دلالی، دلال کا کمیشن، تاجر، مختلف کام کرنے والے یا کارندہ کا پیشہ، دَلَّالَة: عورت دلال، اَدَلّ علی: کو زیادہ معقول طور پر ثابت کرنے والا، پر زیادہ دلالت کرنے والا، زیادہ معنی خیز، زیادہ محرک خیال، اَدَلُّ دلیل علی: کا بہترین ثبوت، کی یقینی ترین شہادت، تدلیل: توجیہ، دلیل، بحث مباحثہ، اثبات، دلالت، ثبوت، ـــ علی: کو ثابت کرنا، کا اثبات، کیلئے ثبوت یا شہادت کی فراہمی، تصدیق، توثیق، تائید، ثبوت، ثبوت اصلیت، ـــ: عشوہ گری، لاڈ میں عادتیں بگاڑنا، خراب کرنا، ناز برداری کرنا، چکارنا، پچکارنا، محبت سے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا، پیار کرنا، لاڈ کرنا، پیار سے ہاتھ پھیرنا، چومنا، سینے سے لگانا، کسی قسم کی پسندیدہ شکل- اسمُ التدلیل: دل پسند نام، چہیتا نام- تَدَلُّل: عشوہ گری، نخرے بازی، لاڈ سے بگاڑنا، ناز برداری کرنا، استدلال: مباحثہ، بحث، توجیہ، دلیل، اثبات، دلالت، ثبوت، دلیل، مثالوں کے ذریعے تعلیم، نتیجہ، استدلال، استخراج، ـــ علی: کا ثبوت، کی شہادت، دَالَّة: بے تکلف دوستی،

بے تکلفی بے جا بے تکلفی، جی داری، بہادری، دلیری،
مَدْلُول: ثابت کیا ہوا (جمع مدلولات) معنی، مفہوم،
مَدْلُولَاتُ الْکَلِمات: لغوی معنے۔ مُدَلَّل: بگڑا ہوا
بچہ، بچہ جس کی لاڈ میں عادتیں بگڑ گئی ہوں۔ مُدِلّ:
گستاخ، شوخ، متکبر، مُدِلٌّ بنفسہ: مغرور، متکبر، خود
پسند، اپنی ذات کو اہم سمجھنے والا۔

دلب: ا۔ الدُّلْب (ن) درخت چنار۔ الدُّلْبَة: سیاہی۔
الدَّالِب: دہکتا ہوا انگارا۔ دہکتی ہوئی چنگاری، الدُّولاب
والدَّولاب: جمع دَوَالِیب: محور پر گھومنے والی
ہر چیز، رہٹ (فارسی لفظ) المَدْلَبَة: بکثرت۔ چنار
کے درختوں والی زمین۔
۲- الدلبوث او سیف الغراب (ن): ایک پھولدار پودا۔
○ دُلْب: مصر اور شام کا انجیر (درخت)
○ دلتا: نشیبی مصر، نیل کا ڈیلٹا (تکونی زمین جو دریائے
نیل کے دہانے پر بن گئی ہے)

دلث: دَلَثَ - دَلِیثًا: چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔
تَدَلَّثَ الیہ: پر کود پڑنا، میں گھس پڑنا۔ اِنْدَلَثَ
الرجلُ: خودسر ہونا۔ اِدَّلَثَ الشیءَ: کو ڈھانکنا۔
الدِلاث: جمع دُلُث و دُلُث: تیز رو۔ رجلٌ
دِلاث: تیز رو آدمی۔ ناقۃٌ دِلاثٌ: تیز رو اونٹنی۔

دلج: ا۔ دَلَجَ - دُلُوجًا: کنویں سے پانی لے کر حوض میں
ڈالنا صفت۔ دَالِجٌ: جمع دُلَّج۔ المِدْلَجَة: ڈول،
دودھ لیجانے کا بڑا برتن۔
۲- اَدْلَجَ اِدلاجًا و ادَّلَجَ اِدِّلاجًا القومُ: تمام رات یا
رات کے آخری حصہ میں سفر کرنا۔ اسم الدُّلْجَة
والدَّلْجَة۔ الدَّلَج والدَّلَجان و الدَّلَجة: رات کا
آخری پہر یا آخری گھڑی۔ المِدْلاج: آخری رات
میں چلنے کی عادی۔
۳- الدَّوْلَج: سرنگ۔ ـــ و المَدْلَجَة: وحشی جانوروں کا
بھٹ۔
○ اَدْلَجَ: آغاز شب پر روانہ ہونا۔

دلح: دَلَحَ - دُلُوحًا: بوجھ کے باعث آہستہ رفتاری سے
چلنا، سستی سے چلنا۔ ـــ دَلْحًا الشیء: کو کنویں میں
ڈالنا یا نکالنے کے لئے کھینچنا۔ (عوامی زبان میں)
طربوش دَلَح: لمبی ٹوپی، تَدَالَحَ الرجلان
الشیءَ بینھما: کو دو شخصوں کا لکڑی پر اٹھانا۔ الدالِح:
جمع دُلَّح و دَوَالِح والدَّلُوح جمع دُلُح: پانی سے
بہت بھرا ہوا بادل۔ فرسٌ دَلُحٌ: سوار کو نہ ستانے والا
گھوڑا، بہت پسینہ والا گھوڑا۔
○ دَلُوح: جمع دُلُح: آبی قطرات سے لدا ہوا بادل۔
○ دَلْدَلَ: لٹکنا، جھومنا، جھولنا، تَدَلْدَلَ: لٹکنا، جھولنا،
جھومنا، دُلْدُل و دُلْدُل: سیہ، خار پشت۔

دلخ: دَلِخَ - دَلَخًا: موٹا ہونا، الاناءُ: برتن کا بھر کر بہہ
پڑنا، چھلکنا، الدالِخ: موٹا، فربہ کہا جاتا ہے۔ بعیرٌ
دالِخ و ابلٌ دُلَّخ و دَوَالِخ: موٹا یا فربہ اونٹ،
موٹے یا فربہ اونٹ، الدَّلُوخ: جمع دُلُخ: موٹا، فربہ

دلس: ا۔ دَلَّسَ البائعُ: بیچنے والے کا خریدار سے فروخت
کی جانے والی چیز کا عیب چھپانا، ـــ المُحَدِّث:
محدث کا اپنے شیخ کا نام نہ لینا بلکہ اوپر کے راوی کا نام
ایسے نہج سے لینا کہ گویا اس کو اس سے سماع حاصل
ہے۔ دَالَسَ مُدالَسَةً ہ: کو دھوکا دینا، پر ظلم کرنا۔ کہا
جاتا ہے۔ ھو لا یُدالِس و لا یُوالِس: وہ نہ تو ظلم کرتا
ہے نہ خیانت، تَدَلَّسَ الرجلُ: چھپنا، اِنْدَلَسَ
الشیءُ: پوشیدہ ہونا۔ الدَّلْس: دھوکا فریب،
الدَّلَس و الدُّلْسَة: تاریکی، اندھیرا۔
۲- اَدْلَسَ المکانُ: موسم گرما کے آخر میں یا چر لینے کے
بعد کسی جگہ کا سرسبز ہونا۔ تَدَلَّسَت الدابَّۃُ: چراگاہ
میں جانور کا تھوڑی سی گھاس کو پورا چر جانا ـــ الطعامَ:
کھانے کو تھوڑا تھوڑا کھانا۔ الادلاس
مفرد الدَّلَس (ن): موسم گرما کے آخر یا چرے جانے
کے بعد ہرا ہونے والا سبزہ یا پودے۔
○ دَلَّسَ: دھوکا دینا، ٹھگنا، خرد برد کرنا، فریب دے کر لوٹنا،
ـــ ہ: میں جعلسازی کرنا، کو جعلی بنانا، گھڑنا، دَالَسَ ہ:
کو دھوکا دینا، کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کو ٹھگنا،
تَدْلِیس: دھوکا، فریب، دغا، مکر، چھل، دغابازی، دھوکا
بازی، ٹھگی، خرد برد، فریب دیکر لوٹنا، تَدْلِیسِی: دھوکے
اور فریب کا۔ مُدَلَّس: گھڑا ہوا، جعلی، نقلی، مصنوعی،
نقود مُدَلَّسَة: جعلی سکے، نوٹ یا نقدی۔ مفاتیح
مُدَلَّسَة: نقلی چابیاں۔

دلص: دَلَصَ - دَلِیصًا: چمکنا، نرم ہونا، صفت، دَلِص: جمع
دِلاص و دلیص جمع دُلُص دُلَّص
دَلاصَةً: سامنے ہونا صفت، اَدْلَص: مؤنث دَلْصاء
دَلَّصَ الشیءَ: کو نرم کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ دَلَّصَ
السیلُ الحجرَ: سیلاب نے پتھر کو چمکدار بنا دیا۔ ـــ
الدرعَ: زرہ کو نرم و ملائم کرنا، ـــ الجبینَ: پیشانی
کے بال نوچنا۔ اِنْدَلَصَ الشیءُ من یدہ: چیز کا
ہاتھ سے چھوٹ کر گر جانا، ـــ الشیءُ من الشیء:
چیز کا چیز سے نکلنا۔ الدَّلِص و الدَّلِصة: ہموار زمین،
الدِلاص: نرم، چمکدار۔ الدَّلاص: نرم، چمکدار،
کہا جاتا ہے۔ دِرْعٌ دِلاصٌ: نرم چمکدار زرہ،
الدَّلاص: نرم چکنا، نابٌ دَلْصاء: بڑھاپے کے
باعث گرے ہوئے دانتوں والی اونٹنی۔

دلظ: دَلَظَ - دَلْظًا فی سیرہ: جلدی گزرنا، ـہ: کے سینے
پر مار کر دھکیلنا، ہٹانا، دَالَظَ ہ: کی مدافعت کرنا،
مقاومت کرنا، اِنْدَلَظَ الماءُ: پانی تیزی سے جاری
ہونا۔

دلع: ا۔ دَلَعَ - دَلْعًا لسانَہ: منہ سے زبان نکالنا، ـــ
دَلْعًا و دُلُوعًا و اِدَّلَعَ لسانُہ: منہ سے زبان باہر
نکلنا۔ اَدْلَعَ لسانَہ: منہ سے زبان نکالنا۔ اِنْدَلَعَ
لسانُہ: منہ سے زبان باہر نکل آنا، ـــ البطنُ: پیٹ کا
بڑھ کر ڈھیلا ہونا۔ ـــ السیفُ: تلوار کا میان سے نکلنا۔
الدَّلُوع من النوق: رفتار میں اونٹوں سے آگے نکل
جانے والی اونٹنی۔ الدُّلاع و الدُّولَعَة (ح):
گھونگھا۔ المُدَلَّع: ناز و نعمت میں پلا ہوا۔ اسم الدَّلاعۃ۔
۲- الدَّلِیع و الدَّلُوع: جمع دلائع: کشادہ راستہ، نرم
راستہ۔
۳- الدَّلْعَس و الدِلْعِس و الدِلْعَوْس و الدِلْعاس
والدُّلاعِس من الجمال: سدھا ہوا اونٹ۔
○ دَلَعَ - دَلْعًا لسانَہ: اپنی زبان باہر نکالنا، دَلَّعَ ہ: بچہ کو
بگاڑنا، لاڈ سے بگاڑنا، کو چومنا، پیار سے ہاتھ پھیرنا،
بہت لاڈ پیار کرنا۔ شیءٌ یُدَلِّعُ النفسَ: قے آور
چیز، نفرت انگیز چیز۔ اِنْدَلَعَ: زبان کا باہر نکلنا، (شعلہ
کا) دفعتًا جل اٹھنا، ہلکے سے چھونا، تیر کی طرح نکلنا،
(آگ کا) ایکا یک لگ جانا، شروع ہونا، یا پھیلنا، (بچہ
کا) بگڑ جانا، لاڈ سے بگڑنا۔ اسم الدَّلَع: پسندیدہ چہیتا
نام، دَلاَّع: اسم جنس واحد دَلاَّعَة: تربوز۔

دلغ: الدِلغان: گیس دار چپکنے والی مٹی (لغت عامہ)

دلف: دَلَفَ - دَلْفًا و دَلَفًا و دُلُوفًا و دَلِیفًا و دَلَفانًا:
بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چھوٹے چھوٹے قدموں
سے چلنا، ـــت الناقۃ بحملھا: اونٹنی کا بوجھ
لے کر اٹھنا۔ ـــ الجیشُ: لشکر کا آگے بڑھنا صفت
دالِف جمع دُلَّف و دُلُف اَدْلَفَہُ الکِبَرُ: کو
بڑھاپے کا آہستہ چلانا، تَدَلَّفَ الیہ: چل کر کسی کے
نزدیک ہونا۔ الدالِف: نشان کے قریب گر کر اچٹ
جانے والا تیر۔ الدَّلُوف جمع دُلُف (ح): فربہ
اونٹ (ن) بہت پھل دار کھجور کا درخت۔
۲- اَدْلَفَ لہُ القولَ: کے ساتھ سختی سے کلام کرنا۔
۳- اِنْدَلَفَ علیہ: پر گرنا۔ الدِلِف: بہادر الدَّلُوف:
جمع دُلُف: تیز اڑان کا گدھ۔
۴- الدُّلْفِین: جمع دَلافِین (ح): ایک قسم کی بڑی مچھلی۔
اس کے ہم معنی عربی لفظ الدُّخَس ہے۔ فربہی
میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔
○ دَلَفَ - دَلْفًا و دُلُوفًا و دَلَفانًا: ڈگمگا کر چلنا، چھوٹے

چھوٹے قدموں سے چلنا، ــالی: آہستہ چل کر، مٹر گشت کرتے ہوئے یا ٹہلتے ہوئے کسی کے پاس جانا۔ ــعلی: کی طرف آگے بڑھنا۔ ــالی: قدم بقدم کسی شخص یا چیز تک پہنچنا، تک پہنچنا، تک گھس جانا، کو ٹوہنا، ٹٹولنا، (ہاتھ کا) ــــ (پانی کا) رسنا، ٹپکنا، قطرہ قطرہ ٹپکنا، قطرہ ہو کر گرنا، دَالِف: جمع دَوَالِف: گولی جو سطح سے ٹکرا کر واپس اچھل آئے۔ دُلفِین: ڈولفن (Dolphin)۔

دلق. دَلَقَ۔دَلْقًا و اَدْلَقَ السیفَ من غمده: تلوار کو میان سے نکالنا۔ ــ البعیرُ شِقْشِقَتَهٗ: اونٹ کا اپنے منہ سے بلبلے نکالنا، جھاگ نکالنا۔ ــ علیهم الغارَةَ: پر لوٹ ڈالنا، حملہ کرنا، ــــالبابَ: دروازہ کو زور سے کھولنا، ــ دَلْقًا و دُلُوقًا السیفُ: تلوار کا خود بخود نکل آنا۔ ــت الخیلُ: گھوڑوں کا آگے پیچھے نکلنا، صفت دُلُق: واحد دَالِق و دَلُوق۔ تَدَلَّقَ السیلُ علیه: پر سیلاب کا ایک دم آپڑنا۔ اِنْدَلَقَ الشیءُ: اپنی جگہ سے نکل آنا، ــ السیفُ: تلوار کا خود بخود نکل آنا۔ ــ السیلُ علیه: پر سیلاب کا امنڈ آنا۔ ــت الخیلُ: گھوڑوں کا بہت تیزی سے نکلنا۔ اِسْتَدْلَقَ السیفَ: تلوار کو میان سے نکالنا۔ الدَّلْق (مص): چیز کا نکلنے کی جگہ سے تیزی سے نکلنا۔ الدَّلَق (ح): جسم میں بلی کے قریب قریب زرد رنگ کا ایک جانور جس کا پیٹ اور گردن مائل بہ سفیدی ہوتے ہیں۔ (فارسی لفظ) سیفٌ دَالِقٌ و دَلِقٌ و دَلُوقٌ: میان سے بآسانی نکلنے والی تلوار۔ غارةٌ دَلُوقٌ: سخت لوٹ، حملہ۔ ناقةٌ دَلُوقٌ: بوڑھی ٹوٹے ہوئے دانتوں والی اونٹنی۔ جمع دُلُق۔

○ دَلَقَ۔دَلْقًا ہ: (سیال چیز) کو گرانا، بہانا۔ اِنْدَلَقَ (سیال چیز) کا گرنا، بہنا۔

دلك ا۔ دَلَكَ۔دَلْكًا الشیءَ: کو رگڑنا، ملنا، کھرچنا، ــ وجهَهٗ بالطیب: چہرے پر خوشبو لگانا، ــــہ الدهرُ: زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنانا، ــــ الصانعُ الکلسَ: بنانے والے کا چونے کو ہموار کرنا، (لغت عامیہ) تَدَلَّكَ: نہاتے وقت بدن ملنا، ــ بالطیب: خوشبو لگانا، الدَّلَكُ: ڈھیلاپن، کہا جاتا ہے، فی رکبته دَلَكٌ: اس کے زانوں میں ڈھیلاپن ہے۔ الدَّلُوك: لگانے کی خوشبو یا ملنے کی دواء الدَّلِیك: خاک جسے ہوا اڑاتی پھرے، ــ جمع دُلُك: تجربہ کار۔ المِدْلَك و المِدْلَكَة: ملنے کا آلہ۔ البعیرُ المَدْلُوك (ـــــع): کمزور گھٹنوں والا اونٹ، سفر کا تجربہ کار، المَدْلُوك جمع دَآلیك بڑا معاملہ۔

۲۔ دَلَكَ۔دُلُوكًات الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کیلئے جھکنا۔ صفت دَالِك۔ دَلَك: غروب آفتاب کا وقت۔

۳۔ دَلَكَ۔دَلْكًا الرجلَ حقَّهٗ: کا حق ظلماً چھین لینا۔ ــ غَرِیمَهٗ: قرض خواہ کو ٹالنا۔ دَالَكَ مُدَالَكَةً الغریمَ: قرض خواہ کو ٹالنا، المُدَالِك: وہ شخص جو خود کو چھچھوری باتوں سے بلند نہ رکھ سکتا ہو۔

۴۔ الدَّلِیك (ن): ایک پودا

○ دَلَّكَ ہ: کو رگڑنا، چمکنا، سہلانا، پر ہاتھ پھیرنا، ملنا، ــــ العجینَ: آٹا گوندھنا، ــ۔دُلُوكًا: سورج کا غروب ہونا، نیچے جانا، دَلَّكَ ہ/ہ: کو ملنا، رگڑنا، ــہ: کی مالش کرنا، کو طلا لگانا، لیپ کرنا، آٹا گوندھنا۔ ــ ہ: کے ہاتھ پاؤں دبانا، کی چپی کرنا۔ دَلْك: رگڑنا، ملنا، گھاس چرانا، گلہ بانی کرنا، صاف کرنا، چھونا، لمس، دَلُوك: طلا، ضماد، مرہم، تیل، مالش کی دوا یا روغن۔ دُلُوك الشمس: غروب آفتاب۔ تَدْلِیك: ضماد، لیپ، تیل، مالش کی دوا، مالش، مالش کرنا، مُدَلِّكَة: جمع مُدَلِّكَات: مالش کرنے والی۔

دلم :ا۔ دَلِمَ۔دَلَمًا و اِدْلَامَ اِدْلِیمَامًا: چمک دار سیاہ ہونا، صفت، اَدْلَم: مؤنث دَلْمَاء اِدْلَامَّ اللیلُ: رات کا بہت تاریک ہونا۔ الدُّلَم (ح): ہاتھی۔ الدَّلَام: سیاہی، سیاہ، کہا جاتا ہے۔ شیءٌ دَلَام: سیاہ چیز۔ الدَّلْمَاء: قمری مہینے کی تیسویں رات۔ الاَدْلَم: لمبا سیاہ (ح) کالا سانپ، ــ من الالوان: کالا رنگ، الدَّیْلَم: حوض کے نزدیک چیونٹیوں اور چچڑیوں کے جمع ہونے کی جگہ، لشکر (ح) بھٹ تیتر، نر تیتر، کردوں کی ایک قوم کا نام، مصیبت۔

۲۔ دَلِمَ۔دَلَمًات الشفةُ: ہونٹ کا ڈھیلا ہو کر لٹک جانا۔ اَدْلَمَ شفتَهٗ: ہونٹ کو ڈھیلا کرنا۔

۳۔ الدُّلَمِس و الدُّلَامِس: سخت تاریکی، مصیبت۔ الدِّلِمِس: مصیبت۔

۴۔ تَدَلْمَصَ راسُهٗ: کے سر کا گنجا ہونا۔ الدُّلَمِص والدُّلَامِص: چمکدار۔ راسٌ دُلَمِصٌ: گنجا سر۔

دله ا۔ دَلَهَ۔دَلْهًا عنه: سے تسلی پانا،

۲۔ دَلِهَ۔دَلَهًا و دَلْهًا و دُلُوهًا و تَدَلَّهَ: غم وغیرہ سے مسلوب العقل ہونا، حیران ہونا، دَلَّهَهٗ: کو حیران کرنا، مدہوش کرنا۔ الدَّلَه مص: کہا جاتا ہے۔ ذُهِبَ دَمُهٗ دَلْهًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔ الدَّالِه و الدَّالِهَة: عشق وغیرہ کی وجہ سے کمزور دل، سرگشتہ و دیوانہ، المُدَلَّه: عشق وغیرہ کی وجہ سے کھوئی ہوئی عقل یا دل والا۔

۳۔ دَلْهَثَ الرجلُ: جلد آگے بڑھنا۔ الدَّلَهْث والدُّلَامِث والدِّلْهَاث: دلیر، آگے بڑھنے والا (ح) شیر۔

۴۔ اِدْلَهَمَّ اللیلُ: رات کا سخت تاریک ہونا، ــ الظلامُ: اندھیرا گھپ ہونا، الدَّلْهَم: تاریک، سیاہ، (ح) نر بھٹ تیتر، الدَّلْهَمَس: بہت تاریک رات۔

۵۔ اِدْلَهَمَّ الرجلُ: سن رسیدہ ہونا، بوڑھا ہونا۔

۶۔ الدُّلْهُم: عشق سے کھوئی ہوئی عقل والا۔ (ح): بھیڑیا۔ الدِّلْهَام والدَّلَهْمَس: دلیر، بہادر، (ح) شیر۔

○ دَلَّهَ ہ: عشق کا کسی شخص کو حواس باختہ کر دینا، پاگل کر دینا۔ تَدَلَّهَ: عشق سے پاگل ہو جانا۔ تَدَلَّهَتْ فی حبه: وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، مُدَلَّه: محبت میں پاگل۔

○ اِدْلَهَمَّ: تاریک، سیاہ ہونا، گہرا سیاہ ہونا، دَلْهَم: تاریک، گہرا سیاہ، اِدْلِهْمَام: گہرا سیاہ، مُدْلَهِمّ: تاریک، گہرا تاریک۔

دلا :ا۔ دَلَا۔دَلْوًا الدلوَ: ڈول کو کنویں میں ڈالنا، ڈول کو نکالنے کیلئے کھینچنا، ــــ حاجتَهٗ: حاجت طلب کرنا، دَلَوْتُ بالدلوِ: میں نے ڈول سے پانی کھینچا۔ کہا جاتا ہے۔ دلوتُ بفلانٍ الیك: میں نے فلاں شخص کو تیرے پاس سفارشی بنایا۔ دَلَاهٗ: سے نرمی و مدارات کا سلوک کرنا، دَلَّی الدلوَ: کنویں میں ڈول ڈالنا، ڈول کو نکالنے کے لئے کھینچنا، ــحاجتَهٗ: حاجت طلب کرنا، ــہ بالحبل من السطح: اس نے اس کو رسی کے ذریعے چھت سے لٹکایا تو وہ لٹک گیا۔ کہا جاتا ہے۔ دَلَّاهُ بغرورٍ: اس نے اس کو دھوکے میں ڈالا، دَالَی ہ: کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، مدارات سے پیش آنا۔ اَدْلَی اِدْلَاءً: کنویں میں ڈول ڈالنا، ــ الیه بمالٍ: کو مال دینا، بعض کے نزدیک اس کی اصل دلا الدلوَ ہے۔ ــبحجته: دلیل پیش کر کے اس سے حجت کرنا، ــ بقرابته: سے رشتہ داری کا وسیلہ پکڑنا، اُدْلِیَ اِلی فلان: کے پاس اپنا جھگڑا لیجانا، تَدَلَّی الثمر من الشجر: درخت سے پھل کا لٹکنا، ــ من الخیل: گھوڑے سے اترنا۔ الدَّلْو: جمع دِلَاء واَدْلٍ ودُلِیّ ودِلِیّ ودَلْیٌ: ڈول۔ مؤنث۔ کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ (کہا جاتا ہے اَلْقِ دَلْوَكَ فی الدلاءِ: اوروں کی طرح تم بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لو) ایک برج آسمانی کا نام۔ الدَّلَاة: جمع دَلًی ودَلَوَات: چھوٹا ڈول الدَّالِی: سیاہ انگور۔ الدَّالِیَة: جمع دَوَالٍ: زمین جس کو ڈول یا رہٹ سے سینچا جاتا ہو، رہٹ، (ن) انگور کی بیل۔

۲۔ اَدْلَوْلَی اِدْلَاءً فیه: کسی کی بدگوئی کرنا، غیبت کرنا۔

۳۔ اِدْلَوْلَی اِدْلِیلاءً: جلدی کرنا۔

۴۔ الدَّلْو: اونٹ کا داغ۔ مصیبت۔

○ دَلّٰی ہ: کو لٹکانا، لٹکنے دینا، کو نیچا کرنا، گرانا۔ اَدْلٰی: بمعنی دَلّٰی: نیز اَدْلٰی ہ اِلٰی: پر سرسری نظر ڈالنا،۔ بانظارہ: اپنی نگاہیں نیچی کرنا،۔ ب: کا اظہار کرنا، ۔برأیه: اپنی رائے کا اظہار کرنا، ۔بتصرع: بیان دینا، ۔بحجة: اپنی دلیل پیش کرنا،۔ اِلی ب: کو سے مطلع کرنا، کو کوئی چیز پیش کرنا،۔ بحدیث ل: کو اترو یود دینا، ۔فی: کو بدنام کرنا، کی بے عزتی کرنا، پر تہمت لگانا، عیب لگانا، کو رسوا کرنا، اَدْلٰی دلوَهُ بین الدِلاءِ یا اَدْلٰی بدَلْوِهِ فی الدلاء: دوسروں کے ساتھ اپنا حصہ پیش کرنا، اپنی خصوصی مہارت پیش کرنا، جو کر سکتا ہو کرنا، تَدَلّٰی من: (سے) لٹکنا، نیچا ہونا یا ہو جانا، اترنا، ڈوبنا۔ تَدَلّٰی للسقوط: گرنے کے لئے تیار ہونا، کے گرنے کا خطرہ پیدا ہونا، دَلْو: چمڑے کا ڈول، ڈولچی، بالٹی، ٹھلیا، (فلک) برج آبی، قوس آبی، کمبھ، گیارہواں برج، برج دلو، دَلّایَة: لٹکا ہوا، معلق، آویزان، اِدلاء: (بیان) دینا، بیان، اظہار، پیش کش، دینا، دَالِیَة: جمع دَوَالٍ: پن پہیہ، رہٹ، جعفری، پھولی ہوئی رگ۔ مُتَدَلٍّ: لٹکا ہوا، معلق، آویزان، لٹکتا ہوا، گرنے کے قریب۔

دلی: دَلِیَ دَلًی: حیران ہونا،۔ لهٗ: کے سامنے تواضع کرنا، عاجزی کرنا، فروتنی کرنا، تَدَلّٰی به: کے قریب ہونا۔

دمّ: ۱۔ دَمَّ دَمًّا الشیءَ و بالصبغ اولقیرِ ونحوهما: کو رنگ یا تارکول لتھیڑنا یا ملنا،۔ الارضَ: زمین کو برابر کرنا،۔ الیربوع جحرَهُ: جنگلی چوہے کا اپنے سوارخ کو مٹی وغیرہ سے برابر کرنا، بند کرنا۔ دَمَّمَ الشیءَ: چیز کو لتھیڑنا۔ الدَّمّ: بمعنی دم، ۔ والدِمَم والدِمام: ہر چیز جو طلا کے کام آئے۔ الدِمَّة: بکریوں کا باڑہ، مینگنی۔ المِدَمَّة: ایک قسم کی دندانہ دار لکڑی جس سے کاشتکار زمین کو ہموار کرتے ہیں۔ المَدْموم: خون کی طرح سرخ، بہت موٹا، چربی دار۔

۲۔ دَمَّ دَمًّا الرجلَ: کو پوری طرح عذاب دینا، کو مارنا، یا کا سر کچلنا۔ ۔ القومَ: لوگوں کو نیزہ مار کر ہلاک کرنا۔

۳۔ دَمَّ دَمًّا الرجلُ: جلدی کرنا۔

۴۔ دَمَّ دَمَامَة: حقیر اور بدہیئت ہونا، صفت: دمیم جمع دِمَام۔ مونث دمیم و دمیمة جمع دَمائم و دِمَام۔ اَدَمَّ الرجلُ: بدزبانی کرنا، کے ہاں بدشکل بیٹا پیدا ہونا۔ الدِمَّة (ح): چیونٹی (ح): جوں، پستہ قد و حقیر آدمی۔

۵۔ الدُمَّة: جمع دُمَم: طریقہ، گڑیا۔ الدِمَّة (ح): بلی۔ الدیموم والدیمومَة جمع دیامیم: وسیع بیابان۔ الدَیْمُومة: ہمیشگی۔

۶۔ دَمْدَمَ دَمْدَمَةً علیه: سے غصہ کے ساتھ کلام کرنا۔ اللّٰہ علیهم: اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ہلاک کرنا۔ الشیءَ: کو زمین سے چپکانا۔ الدِمْدِم: خشک گھاس، الدُمادِمُ من الارض: نرم ٹیلے۔

○ دَمَّ دَمًّا ہ ب: کو سے قلعی کرنا، ملمع کرنا، لیپنا دھبے ڈالنا، ملنا، لیپ کرنا، رنگنا، استرکاری کرنا، پلستر کرنا، پوتنا، آلودہ کرنا، ہلکا رنگ دینا چاشنی دینا، دَمَّمَ ہ ب: کو سے رگڑنا کی سے مالش کرنا، کو سے طلا کرنا، کو سے لیپنا، پر تیل سے مالش کرنا، کو سے اصطباغ دینا۔ دَمّ: مرہم، لیپ، سکون بخش دوا طلا، ضماد، تیل، مالش کا روغن یا دوا، رنگ، روغن غازہ، نسیج کا قدرتی رنگ، رنگنے کا مسالہ، سرخی، گلگونہ، دِمَام: مرہم، لیپ، طلا، ضماد، تیل مالش کا روغن یا دوا، رنگ، روغن، غازہ، نسیج کا قدرتی رنگ، رنگنے کا مسالہ، سرخی گلگونہ۔ دَمِیم: جمع دِمام: بدصورت، بدشکل، بدنما، بگڑی صورت والا، دَمِیمُ الخِلْقَة: مکروہ شکل کا دیکھنے میں بدصورت۔ دَمَامَة: بدصورتی، بدشکلی، مکروہ پن، بے ہنگم بڑا جسم، انسانیت سوز عمل۔

○ الدَّمَّام: مشرقی سعودی عرب کی ایک بندرگاہ۔

دمث: دَمُثَ دَمَاثَةً: نرم خو ہونا۔ دَمِثَ دَمَثًا المکانُ وغیرُهُ: جگہ وغیرہ کا نرم و ہموار ہونا۔ دَمَّثَ المضجعَ: بستر کو نرم کرنا،۔ المکانَ: جگہ کو نرم کرنا، ۔ له الحدیثَ: سے بیان کرنا، ذکر کرنا۔ الدَمْث والدَمَث، الدمِث والدَمِیث: جمع دِماث و ادْماث: نرم ریتلی جگہ۔ رجلٌ دَمِثُ الاخلاق: نرم خو، خوش اخلاق آدمی۔ ارضٌ دَمْثَاء: نرم زمین۔ الدُمُوثة: نرم خوئی، خوش اخلاقی۔ الدَمائِث: واحد دَمِیثة: نرم چیزیں۔

○ دَمُثَ دَمَاثَةً: شریف ہونا، نرم دل، نرم، شیریں یا سلیم الطبع ہونا، دَمَّثَ ہ: کو نرم کرنا، ملائم کرنا، رسیلا کرنا، شیریں کرنا، دَمِث: جمع دِماث: دَمِثُ الاخلاق: شریف، معتدل مزاج۔ دَمَاثَه: شرافت، نرم دلی، شفقت، نرمی۔

دمج: ۱۔ دَمَجَ دُمُوجاً فی الشیء: میں مضبوطی سے گڑ جانا،۔ الامرُ: کام کا ٹھیک و درست ہونا،۔ دَمَّجَهُ فی الشیء: کو کسی چیز میں داخل کرنا۔ دَامَجَ دِماجَاهُ علیهم: کی مخالفت پر اتفاق کرنا۔ اَدْمَجَ الشیءَ فی الثوب: چیز کو کپڑے میں لپیٹنا، ۔ الحبلَ: رسی کو خوب اچھی طرح بٹنا۔ الکلامَ: کلام کو حسن ترتیب سے آراستہ کرنا۔ تَدَمَّجَ فی ثیابه: اپنے کپڑوں میں لپٹنا۔ تَدَامَجَ القومُ علیه: کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنا، اکٹھا ہونا۔ ۔ القومُ: اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اِنْدَمَجَ و اِدَّمَجَ فی الشیء: میں مضبوطی سے گڑ جانا۔ الدَامِج: تاریک۔ لیلٌ دامِجٌ: تاریک رات۔ الدُماج والدِمَاج: بہت مضبوط، سیدھا۔ الدُمْجَة: طریقہ۔ کہا جاتا ہے۔ علی تلك الدُمْجة: اسی طریقہ پر۔ المُدْمَج: تیر کی چھڑ۔ المُدْمَاجَة: پگڑی۔ الدامِجَانة: جمع دامِجانات: تنگ گردن کی بڑی بوتل جس کے گرد تنکوں کا خول ہو (اطلی زبان کا لفظ) عوام اسے دَمَلْجَانة و دَمَجَانة: کہتے ہیں۔

۲۔ اَدْمَجَ الفرسَ: گھوڑے کو دبلا کرنا۔

۳۔ الدَمْج: نظیر۔ الدِمْج: دوست۔

○ دَمَجَ دُمُوجًا فی: میں داخل ہونا، میں جانا یا آنا میں ڈالا جانا، میں متحد ہونا، ضم ہونا، شامل ہونا۔ دَمَّجَ: مختصر نویسی کرنا، اَدْمَجَ ہ: کو مضبوطی سے بٹنا، گوندھنا، ۔ ہ فی: کو میں داخل کرنا، ڈالنا، شامل کرنا، ایک کرنا، متحد کرنا، ضم کرنا، کا میں الحاق کرنا، لفظ بڑھانا، کو میں ڈالنا، لا کر رکھنا۔ اِنْدَمَجَ فی: میں ڈالا جانا، میں یکجا ہونا، متحد ہونا، ختم ہونا، میں شامل ہونا، مدغم ہونا، میں جذب ہونا، مدغم ہونا، کھایا جانا۔۔: ایک ہونا، ملنا، آمیزش ہونا، تدمیج: مختصر نویسی، شارٹ ہینڈ، سٹینوگرافی، ادماج فی: میں ڈالنا، متحد کرنا، ختم کرنا، شامل کرنا، الحاق۔۔ جذب کرنا، سمونا، رچ بس جانا۔ اندماج فی: میں ڈلنا، متحد ہونا، ضم ہونا، انضمام، ادغام سے الحاق ایک ہونا، میں جذب ہونا، رچ بس جانا۔ مُدْمَج: مضبوط، ٹھیک، پیوست کیا ہوا، اچھی طرح چنایا جمایا ہوا، جامع، پر معنی۔ مُنْدَمِج: مضبوط، سخت، اچھی طرح چنایا جمایا ہوا۔ دَمَجانَة: نیز (دامجانة) جمع دامجانات: بڑی بوتل جس کے گرد تنکوں کا خول ہو۔

دمخ: دَمَخَ دُمُخًا: اونچا ہونا،۔ رأسَهُ: کا سر پھوڑنا۔

○ دَمْدَمَ: بڑبڑانا، بڑبڑ کرنا، گرجنا، غرانا، غصہ کی آواز نکالنا، گرج کر کہنا، دَمْدَمَة: جمع دَمْدَمات: غراہٹ، گرج، بڑبڑاہٹ، بڑبڑانے کی آواز، گرج، گڑگڑاہٹ، گڑگڑانے کی آواز۔

دمر: ۱۔ دَمَرَ دُمُورًا و دَمَارًا و دَمَارةً: ہلاک ہونا۔ دُمُورًا علیهم: لوگوں کے پاس بغیر اجازت آنا، برے ارادے سے اچانک آنا۔ دَمَّرَهم و دَمَّرَ

علیهم: کو ہلاک کرنا۔

۲۔ دَامَرَ اللیلَ: رات بھر جاگنا۔

۳۔ تَدمُر: شام کے اس علاقہ میں واقع ایک شہر جس میں گھاس اگا ہوا تھا۔ آج کل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ انگریزی میں اسے (Palmyra) کہتے ہیں۔ التدمُرِیّ: تدمر سے منسوب، تدمر کا، تدمر کے متعلق۔ (ح) سخت گوشت نوتے ہوئے چنگل والا ایک جنگلی چوہا۔ لیسم، کہا جاتا ہے۔ مافی الدار تدمُریٌّ: گھر میں کوئی بھی نہیں۔

○ دمر: دُمُورًا و دمارًا و دَمارةً: ہلاک ہونا، تباہ ہونا، برباد ہونا۔ دمّر ہ: کو تباہ و برباد کرنا، منہدم کرنا، مٹا دینا، فنا کر دینا، نیست و نابود کرنا، غارت کرنا۔ تدمّر: کا تباہ ہونا، منہدم ہونا، برباد ہونا، غارت ہونا۔ اندمر: تباہ و برباد ہونا، نیست و نابود ہونا، فنا ہونا، مٹ جانا۔ دمار: تباہی، بربادی۔ تدمیر: فنا، انہدام، ہلاکت، فنا کرنا، ہلاک کرنا۔ اندمار: شکست فاش، شکست، ہار، تباہی فنا، مٹنا۔ مُدمّرہ جمع مُدمّرات: بحریہ کا تباہ کن جہاز۔

○ دمُّور: چھینٹ جیسا گاڑھا کپڑا۔ دمُّوری: چھینٹ جیسے گاڑھے کپڑے کا یا اس سے متعلق۔

○ دمیرۃ: دریائے نیل کا سیلابی موسم۔

○ لادُوْمِرِیّ: بمعنی لاتدمری: کوئی بھی نہیں، کوئی بھی ذی روح زندہ شخص نہیں۔

○ تدمُرِی: عموماً تلفظ تدمُری کہا جاتا ہے۔ کوئی ایک، کوئی شخص۔

دمس: ۱۔ دَمَسَ دَمْسًا و دُمُوسًا الظلامُ او اللیلُ: تاریکی یا رات کا گھپ اندھیری ہونا۔ صفت: دَامِس ۔ دَمْسًا ہٗ: کو ڈھانپنا، دفن کرنا، چھپانا۔ علیه السرَّ او الخبرَ: سے بھید یا خبر چھپانا۔ دَمَّسَ ہٗ: کو ڈھانپنا، دفن کرنا، چھپانا۔ دَامَسَ مُدامَسةً الشیءَ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ اَدْمَسَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ۔ الشیءَ: کو چھپانا۔ اِنْدَمَسَ: تہ خانہ میں داخل ہونا۔ الدَّمَس والدَّمِیس: پوشیدہ، ڈھانپا ہوا۔ الدِّمَاس: ہر چھپانے یا ڈھانپنے والی چیز۔ مشکیزہ پر ڈالی جانے والی چادر۔ الدَامِس (فا): تاریک۔ کہا جاتا ہے۔ لیل دَامِسٌ: تاریک رات۔ الدَامُوس: جمع دَوَامِیس: شکاری کے چھپنے کی جگہ۔ المُدَمَّس (ط): سرکہ، نمک اور تیل میں نیم پخت لوبیا۔ الدَّیْمَاس والدِیماس: جمع دَیامیس و دَمَامِیس: تہ خانہ، قبر، حمام۔ الدَیامِیس: تاریک تہ خانے۔ لیلٌ اُدْمُوس: تاریک رات۔

۲۔ دَمَسَ دَمْسًا و دُمُوسًا الموضعُ: کسی جگہ کا مٹ جانا۔ دَمْسًا بینهم: لوگوں میں صلح کرانا۔

۳۔ دَمِسَ دَمَسًا یدُہٗ: کے ہاتھ کا گندگی سے آلودہ ہونا۔ تَدَمَّسَ: آلودہ ہونا۔

۴۔ الدُّمْس: شخص، کوئی شخص، شبیہ صورت کہا جاتا ہے۔ رایتُ دُمْسًا: میں نے ایک صورت دیکھی۔ میں نے ایک شخص دیکھا۔ الدُّمْس من الاُمُور: واحد دامِس: بڑے کام۔ کہا جاتا ہے۔ جاءنا باموٍر دُمْسٍ: وہ بڑے کام لے کر ہمارے پاس آیا۔

۵۔ الدُّمُسْتُق: جمع دَمَاسِق: یونانی فوج میں جرنیل (لاطینی لفظ)

○ دَمَسَ ہٗ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ ۔ ہٗ فی الارض: کو زمین میں دفن کرنا۔ دَمَّسَ ہٗ: کو زمین میں دفن کرنا۔ دِمْس: کوئلے کی راکھ، راکھ، بھبوت۔ دَمَسَة: تاریکی۔ اَدْمَاس: تنگ و تاریک مکانات، جھونپڑے، جھونپڑیاں۔ دَمُوس: جمع دَمَامِیس: غار، کھوہ، گھپا، کہف۔ دِیْمَاس و دَیْمَاس و دَیْمُوس: جمع دَیَامِیس: کمین گاہ، پناہ گاہ، مضبوط زمین دوز قلعہ، قید خانہ، کال کوٹھری، تہ خانہ۔ دَامِس: گھپ اندھیرا، بہت تاریک، تاریک، دھندلا۔ فولٌ مُدَمَّس: نیم پخت لوبیا۔

دمش: ۱۔ دَمْشَقَ الامرَ: کسی کام کو عجلت میں ختم کرنا۔ دُمْشُقُ الیدین: تیز دست، پھرتیلا۔

۲۔ دَمْشَقَ الشیءَ: کو سجانا، کی آرائش کرنا۔

۳۔ تَدَمْشَقَ: دمشق (شہر) میں آنا۔ دِمَشْق و دِمِشْق: شام کا دار الحکومت۔ دِمَشْقِیّ: دمشق کا، دمشق کے متعلق جمع دَمَاشِقَة: ۔

○ مُتَدَمْشِق: بیل بوٹے والا (ریشمی کپڑا) مشجر، دمشقی طرز زندگی اپنایا ہوا، شہری، شہر کا سا۔

دمص: دَمَصَ دَمْصًا فی الشیء: میں جلدی کرنا، ۔ت الکلبةُ بجروها: کتیا کا وقت سے پہلے بچہ جن دینا۔

دَمِصَ دَمَصًا: کے سر کے بالوں کا کم ہونا، ابروؤں کا سروں پر باریک اور درمیان سے موٹا ہونا۔ صفت اَدْمَص مونث دَمْصاء جمع دُمْص۔

دمع: ۱۔ دَمَعَ دَمْعًا و دَمِعَ دَمَعًا و دَمَعَانًا و دُمُوعًا العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اِستَدمَعَ: کی آنکھوں کا آنسو بہانا۔ الدَّمْع: جمع دُمُوع و اَدْمُع: آنسو۔ دَمْعةُ الکرم: شراب۔ مکانٌ دَامِعٌ: نمناک، تر جگہ۔ شَجَّةٌ دَامِعَةٌ: خون بہانے والا زخم۔ امراۃ دَمِعَة و دَمِیعٌ جمع دَمْعَی و دمائع: جلد رو پڑنے اور بہت آنسوؤں والی عورت۔ رجلٌ دَمِیع جمع دُمَعَاء و دَمْعَی: جلد رو پڑنے والا اور بہت آنسوؤں والا مرد۔ المَدْمَع: جمع مَدامِع (ع): آنسوؤں کی جگہ اور آنسو بہنے کی جگہ۔ الدُّمَّاع: بیماری یا بڑھاپے کے سبب آنکھ سے بہنے والا پانی، درخت کاٹنے پر اس سے بہنے والا رس یا مد۔ اللَمَّاع: نم ناک جس سے تری ظاہر ہو۔ ۔ واللَمُوع: بہت آنسوؤں والا، یومٌ دَمَّاعٌ: پھوار والا دن۔

۲۔ دَمِعَ دَمْعًا و دَمَعَانًا و دُمُوعًا الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ اَدْمَعَ الاناءَ: برتن کو کناروں تک بھر دینا۔ قَدْحٌ دَمْعانٌ: لبالب بھر کر چھلکنے والا پیالہ۔

○ دَمَع دَمْعًا: آنکھ کا پانی دینا۔ آنسو بہانا۔ اَدْمَعَ: رلانا، آنسو ابھارنا، آنسو بہانا، دَمْع: آنسو۔ دَمْعَة: ایک آنسو، آنسو کا قطرہ۔ دِمْعَة: آب جوش، یخنی، شوربہ، قُنْبُلَةٌ دَمْعِیَةٌ: آنسو گیس بم۔ دَمِعَة و دَمِیع جمع دَمْعَیٰ و دَمَائِع: رو پڑنے والا، آبدیدہ اکثر رونے والا، پر اشک، اشکبار، نم ناک، بات بات پر رونے والی۔ دَمُوع و دَمَّاع: اشکبار، آبدیدہ، پر اشک، رو پڑنے والی آنکھیں) مَدمع جمع مَدَامِع: اشک آور نال۔

دمغ: ۱۔ دَمَغَ دَمْغًا ہٗ: کو دماغ تک زخمی کرنا، صفت مفعولی: دَمِیغ و مَدْمُوغ دَمَغَتهُ الشمسُ: سورج کا دماغ کو تکلیف پہنچانا۔ شَجَّةٌ دَامِغَةٌ: دماغ تک پہنچا ہوا زخم۔ الدِمَاغ: جمع اَدْمِغَة (ع ا): دماغ سر کا بھیجا۔ اُمُّ الدِمَاغ (ع ا): دماغ پر لپٹی ہوئی باریک جھلی۔

۲۔ دَمَغَ دَمْغًا ہٗ: پر غالب آنا، کو مغلوب کرنا۔ ۔ الحقُّ الباطلَ: حق کا باطل کو مٹانا، بے حقیقت کرنا۔ اَدْمَغَ ہٗ الی کذا: کو کا حاجتمند بنانا۔

۳۔ دَمَغَ دَمْغًا ہٗ: کو داغ لگانا، داغی کرنا (آگ سے)۔ الدَمْغَة: آگ سے لگایا ہوا داغ۔ دمغة الاصبع: انگوٹھے کا نشان۔

۴۔ دَمَّغَ الاطعمةَ بالدسم: کھانے میں چربی یا چکنائی ڈالنا۔ اَدْمَغَ الطعامَ: کھانا نگلنا۔ ۔ الشیءَ: چیز کو داخل کرنا۔

○ دَمَغَ ہٗ: (جھوٹ، غلطی، جھوٹے الزام) کی تردید کرنا، کو غلط ثابت کرنا، کالعدم قرار دینا، (حق کا باطل پر) فتح حاصل کرنا۔ دِمَاغ جمع اَدْمِغَة: دماغ، ذہن۔ حُجَّةٌ دَامِغَةٌ: قوی، زوردار، معقول یا دل کو لگتی ہوئی دلیل، بحث۔ شَهَادَةٌ دَامِغَةٌ: ناقابل تردید شہادت، گواہی۔ دَمَغَ دَمْغًا ہٗ: پر مہر لگانا،

سونے یا چاندی کی چیزوں) پر مہر لگانا۔ (جانور) کو داغنا، پر داغ لگانا۔ دَمْغ: مہر لگانا۔ دمغ المصوغات: سونے چاندی کی اشیاء پر مہر لگانا۔ دَمْغَة: مہر (سونے چاندی کی اشیاء پر) مہر، وَرَق دَمْغَة: ٹکٹ لگا کاغذ، اسٹام۔ مَدْمُوغ: مہر لگا ہوا، مہر کا حامل، مہر والا۔

دمق: ۱۔ دَمَقَ ـُـ دُمُوقاً علیه: پر بغیر اجازت داخل ہونا، کے پاس کسی کمرہ وغیرہ میں اجازت لئے بغیر جانا۔ ــ دَمْقاً و دَمَقَ و أَدْمَقَ الشیءَ فی الشیء: ایک چیز کو دوسری میں داخل کرنا۔ اِنْدَمَقَ: نکلنا، باہر آنا، ــ علیه: پر بغیر اجازت داخل ہونا (ضد)۔ الدَمِیق: دوسری چیز میں داخل کیا ہوا۔ المُنْدَمَق: داخل ہونے کی جگہ۔

۲۔ دمَقَ ـُـ دَمْقًا الشیءَ: کو چرانا۔

۳۔ دمَقَ ـُـ دَمْقًا فاهُ: کے دانت توڑ دینا۔

۴۔ دمَقَتِ السماءُ بالمطر: آسمان کا پھوہار برسانا، یعنی پوہار پڑنا۔ ترشح ہونا۔ (عامی زبان میں)

۵۔ الدَمَق: تیز ہوا جس کے ساتھ برف برسے۔ (فارسی لفظ) الدامِق والدَمُوق من الرحال: برا، بے فیض آدمی۔

۶۔ الدِمَقْس والدِمَقاس: سفید ریشم، دیباج۔ ثوبٌ مُدَمْقَس: ریشم سے بنا ہوا کپڑا۔

○ دِمُقراطِیّ: جمہوری، جمہوری حکومت کا حامی، جمہوری جماعت کا رکن۔ دِمُقراطِیَّة: جمہوریت، جمہوری حکومت، عوامی راج، دِمَقْس: خام ریشم۔ دِمَقْسِیّ: ریشمی، نرم، چمکدار، ریشمی لباس میں ملبوس۔

دمك: ۱۔ دَمَكَ ـُـ دُمُوكاً الأرنبُ: خرگوش کا تیز دوڑنا۔ ــ الشیءَ: کو پیسنا۔ الدَمُوك: تیز گذر جانے والا کہا جاتا ہے۔ رَحیً دَمُوكٌ: تیز پیسنے والی چکی۔ الدامِکَة جمع دَوامِك: مصیبت۔ رَحیً دَمَکْمَك: بہت پیسنے والی چکی۔

۲۔ دَمَكَ ـُـ دُمُوكاً الشیءُ: چکنا اور چمکدار ہونا۔ المِدْمَك: روٹی چوڑی کرنے کا بیلن۔

۳۔ دَمَكَ ـُـ دَمْكاً الرشاءَ: رسی بٹنا۔ الدَمَکْمَك: بہت مضبوط۔ المِدْماك: جمع مَدامِیك (ب): عمارت میں اینٹوں یا پتھروں کا رَدّا۔

○ مَدْمُوك و مُدْمَكٌ: مضبوط کسا ہوا، تنا ہوا۔

دمل: ۱۔ دَمَلَ ـُـ دَمْلاً و دَمَلاناً الأرضَ: زمین میں کھاد وغیرہ ڈال کر درست کرنا۔ ــ بینهم: میں صلح کرانا۔ ــ ـُـ دَمْلاً الدُمَّل: پھوڑے کو اچھا کرنا۔ دَمِلَ ـَـ دَمَلاً و اِنْدَمَلَ و اِدَّمَلَ الجرحُ: زخم کا اچھا ہونا۔ داملَهُ: کی مدارات کرنا، کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا۔ دَوْمَلَ بینهم: میں صلح کرانا۔ تَدَمَّلَ المکانُ: جگہ کا کھاد سے درست ہو جانا۔ تَدامَلَ القومُ: لوگوں کا آپس میں صلح کرنا۔ الدَمْل (مص): نرمی۔ الدُمَل و الدُمَّل: واحد دُمَّلَة: جمع دَمامِل و دَمامِیل: پھوڑا، پھنسی، الدَمال: کھاد (کہا جاتا ہے هذا دَمالُ ذاكَ: یہ اس کا مصلح ہے۔ یہ اس کی اصلاح کرنے والا ہے۔) دریا کا بہاؤ میں لایا ہوا خس و خاشاک۔ پرانی سڑی ہوئی سیاہ کھجوریں، جانوروں کی مینگنیاں اور مٹی جو ان کے پاؤں میں روندی گئی ہوں۔ الدَمّال: زمین کو کھاد ڈال کر درست کرنے والی چیز۔

۲۔ دَمْلَجَ دَمْلَجَةً و دِملاجًا الشیءَ: کو اچھی طرح ڈھالنا۔ الدُمْلُج و الدِمْلَج جمع دَمالِج و الدُمْلُوج: جمع دَمالِیج: بازوبند، پہنچی، کہا جاتا ہے۔ القی علیه دَمالِیجَهُ: اس نے اپنا بوجھ اس پر ڈالا۔

۳۔ دَمْلَجَ هُ: کو لڑھکانا۔

۴۔ دَمْلَقَ هُ: کو چکنا کرنا، ہموار کرنا، حجرٌ دَمْلَقٌ و دُمْلِقٌ و دُمالِقٌ: چکنا پتھر۔

۵۔ دَمْلَكَ الشیءَ: کو چکنا کرنا۔ تَدَمْلَكَ: چکنا ہونا۔ ــ الثدیُ: پستان کا گولائی میں ابھرنا۔ الدُمْلُوك: چکنا گول پتھر۔

○ دَمَلَ ـُـ دَمْلاً و دَمَلاناً هُ: زمین کو قابل کاشت کرنا، زرخیز بنانا، بارآور بنانا اچھی فصل دینے والی بنانا، زمین میں کھاد ڈالنا، زمین کی قوت نمو بڑھانا۔ دَمِلَ ـَـ دَمَلاً زخم کا مندمل ہونا، اچھا ہونا، زخم بھرنا، زخم پر انگور آنا، اِنْدَمَلَ: زخم کا مندمل ہونا، اچھا ہونا، بھرنا، زخم پر انگور آنا۔ (زخم، خراش، دکھتی جگہ) کا پکنا، میں مواد پڑنا، کا گلنا میں پیپ پڑنا۔ دُمَّل: (اسم جنس واحد دُمَّلَة جمع دَمامِل و دَمامِیل: پھوڑا، دنبل، پھنسی، زخم، خراش، دکھتی جگہ کو مزا، گلٹی، سخت ابھار، ناسور، کھلا زخم راج برائی، طاعون دُمَّلِیّ: طاعون، پلیگ، دُمْلُج: جمع دَمالِج: کڑا کنگن، چوڑی، پہنچی۔

دمن: ۱۔ دَمَنَ ـُـ دَمْناً الأرضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ دَمِنَ ـَـ دَمَناً النخلُ: کھجور کا سیاہ اور بدبودار ہونا۔ دَمَّنَ البعیرُ المکانَ: اونٹ کا کسی جگہ مینگنیاں کرنا۔ تَدَمَّنَ المکانُ او الماءُ: کسی جگہ یا پانی میں اونٹوں، بکریوں وغیرہ کی مینگنیاں گرنا۔ الدَمْن (مص): کھجور کے درخت کی بدبو اور سیاہی۔ الدِمْن و الدَمان: گوبر، کھاد، کھجور کی بو، راکھ، کہا جاتا ہے۔ هو دِمْنُ مال: وہ مال کا منتظم ہے۔ الدِمْنَة: جمع دِمَن و دِمْن: گھر کے نشانات حوض میں بقیہ پانی یا حوض کے قریب مینگنیوں اور مٹی کا ملا جلا ڈھیر، کوڑی، کوڑا۔ خضراءُ الدِمَن و خُضرَةُ الدِمَن: گھورے پر اگا ہوا سبزہ۔ یہ دونوں مثالیں ان چیزوں کے لئے بولی جاتی ہیں جن کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہو۔ اسی سے یہ قول ہے۔ اِیّاکم وخضراءَ الدِمَن: خوبصورت عورت سے بچو جس کی اٹھان میں برائی ہو۔

۲۔ دَمِنَ ـَـ دَمَناً علیه: سے کینہ رکھنا۔ دَمَّنَ بابَ فلان: کے دروازے کو نہ چھوڑنا۔ اَدْمَنَ الشیءَ: کو ہمیشہ کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ رجلٌ مُدْمِنُ خمرٍ: ہمیشہ شراب پینے والا آدمی۔ شراب کا عادی۔ الدِمْنَة: جمع دِمَن و دِمْن: دل میں بیٹھا ہوا پرانا کینہ۔ کہا جاتا ہے۔ فی قلبه دِمْنَةٌ: اس کے دل میں پرانا کینہ ہے۔

۳۔ دَمَّنَ فلانا: کسی کو رخصت دینا۔

○ دَمَنَ ـُـ دَمْناً هُ: زمین کو زرخیز بنانا، زمین میں کھاد ڈالنا، اَدْمَنَ هُ / علی: خود کو کے سپرد کرنا، خود کو کی نذر کرنا، کے لئے وقف کرنا، مخصوص کرنا، کو تندی سے کرنا، میں حصہ لینا، شریک ہونا، کو اختیار کرنا۔ ــ علی: کا عادی ہونا، لتیا ہونا، دھتیا ہونا۔ دِمْن (اسم جنس واحد دمنة) جمع دِمَن: کھاد، کیمیائی کھاد، گوبر، لید۔ دِمْنَة: جمع دِمَن: گھر کے نشان، بچے کھچے حصے، کھنڈر۔ دَمان: کھاد، کیمیائی کھاد، گوبر، لید۔ اِدْمان: عادت، لت، دھت، زیادتی، بے اعتدالی، خلل دماغ، خبط، مالیخولیا، جنوں سودا، جوش اور انہماک، نشہ۔ اِدمان المُسکرات: اعتدال سے بڑھ کر نشہ آور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے جسمانی ابتری۔ مُدْمِن علی: کا عادی، لتیا، دھتیا۔

○ دُمان: دیکھو دومان

○ دَمَنْهُور: شمالی مصر کا ایک شہر۔

دمه: دَمِهَ ـَـ دَمَهًا الرملُ: ریت کا سخت گرم ہونا۔ دَمَهَتْهُ الشمسُ: کو دھوپ لگ جانا، جلانا۔

دمی: ۱۔ دَمِیَ ـَـ دَمًی و دُمِیًّا الجرحُ: زخم سے خون نکلنا صفت۔ دَمٍ۔ دَمَّی تَدْمِیَةً الجرحَ: زخم سے خون نکالنا۔ اَدْمَی اِدماءً الجرحَ: زخم سے خون نکالنا۔ ــ الرجلَ: کا خون بہانا۔ اِسْتَدْمَی الرجلُ: سر جھکا کر ناک سے خون بہانا۔ ــ الذبیحَ: کا خون لینا۔ الدَّم: خون۔ اس کی اصل دَمْیٌ ہے۔ بعض کے نزدیک دَمْوٌ ہے۔ لام کلمہ حذف کیا گیا۔ کبھی اس کو میم سے بدل کر دمٌ مُشدَّد: بولتے ہیں۔ اس کا تثنیہ دَمان و دَمَیان و دَموان: جمع دِماء و دُمِیّ: اور تصغیر دُمَیّ: اور نسبت کے لئے کہتے ہیں۔ الدَمِیّ والدَمَوِیّ: (کہا جاتا ہے رجلٌ ذو دم خون کا دعویدار) (ح): بلی۔ دمُ الأخَوین (ن): سرخ رنگ کرنے کا سامان، درخت

کی چھال جو رنگنے کے کام آتی ہے۔ الدَمَة: خون کا
ٹکڑا۔ الدُمْيَة: جمع دُمًى: خون کی طرح سرخ کی
ہوئی آراستہ پتلیاں، بت الدامی (فا): جس کا
خون بہتا ہو۔ دامِي الشفة: غریب یا مانگنے کا
حریص۔ الدامي کا مؤنث: الدامِيَة: زخم یا چوٹ
جس سے خون بہے۔ المُدَمّي: تیر جس پر خون خشک
ہو گیا ہو، بہت سرخ رنگ گھوڑا وغیرہ۔ الداماء:
خیر و برکت۔
۲-دَمّيَ لفلان: کے لئے راستہ آسان کرنا، کو قریب کرنا،
اِستَدمَى من غريمه: قرض دار سے قرض نرمی سے
وصول کرنا۔

○ دَمِيَ -دَمًى: خون بہنا، دَمّى و اَدمَى: خون بہانا۔
دام: بہتا خون، لہولہان، خون جیسا، خون آلود،
خونخوار۔ مُدَمّى مونث مدماه: خونی، خون رنگ
کا۔

○ دُمْيَة: جمع دُمًى: بت، مورت، مجسمہ، چھوٹا بت، یا
مجسمہ، تصویر، تصور، مثالی پیکر، پتلا، کٹھ پتلی، پتلی، گڈا،
گڑیا۔

○ دِمْياط: شمالی مصر کا ایک شہر۔

دن: ۱-دَنَّ -دَنًّا الذبابُ: مکھی کا بھنبھنانا۔ دَنينًا الرجلُ:
گنگنانا، غیر مفہوم بات کرنا۔ دَنَّنَ الذبابُ: مکھی کا
بھنبھنانا۔ الدِنَّة (ح): چیونٹی کی طرح کا ایک جانور۔
۲-دَنَّ -دَنَنًا: جھکی ہوئی کمر والا ہونا، کوز پشت ہونا۔ صفت
اَدَنّ مؤنث دَنّاء جمع دُنّ بيتٌ اَدَنُّ: پست مکان۔
۳-اَدَنَّ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ الدَنّ: جمع دِنان:
بڑا مٹکا جو زمین میں گڑھا کھود کر رکھا جا سکے۔ الدَنِّيَّة:
کلاہ۔

○ دَنَّ -دَنًّا و دنينًا: مکھی وغیرہ کا بھنبھنانا۔ دَنٌّ و دَنين:
بھنبھناہٹ۔ دَنّ: جمع دِنان: شراب کی مٹی کی صراحی۔

دنا: دنا -دَنْوً - دُنُوَّةً و دَناءَةً: ذلیل و خسیس ہونا۔
صفت: دَنِيٌّ جمع اَدْنِيَاء و دُنَاء۔ دَنِيَ -دَنًا
الرجلُ: کبڑا ہونا۔ صفت: اَدنَى مؤنث دَناى۔
اَدنَا: ادنی سواری پر سوار ہونا۔ دَنّاهُ: کو کمینہ بنانا۔
تَدَنّاهُ: کو کمینگی پر اکسانا۔ الدنيئة: برائی، نقص۔

○ دَنَأَ و دَنُؤَ -دُنوءةً و دَناءَةً: کمینہ ہونا، ذلیل ہونا،
حقیر ہونا، خبیث ہونا، پاجی ہونا، قابل نفرت ہونا،
فرومایہ ہونا، سفلہ ہونا۔ دَنِيءٌ: جمع اَدنِيَاء و اَدنَاء:
کمینہ، ذلیل، حقیر، خبیث، پاجی، قابل نفرت، فرومایہ،
سفلہ، ادنی، گھٹیا، کم رتبہ، زیردست، سفلی، دوسرے
درجہ کا خراب قسم کا۔ اَدنَى: زیادہ نیچا، زیادہ کمینہ، ادنی
تر، حقیر تر، خراب قسم کا۔ دَناءَةً: کمینگی، سفلہ پن، خباثت،
کمینہ پن، ذلت، بدمعاشی، گھٹیا پن۔

○ دِنتلا و دَنتِلَة: ڈوری، فیتہ، لیس، جھالر، زری کا کام۔

دنب: الدِنَّب و الدِنَّبَة و الدِنَّابَة: پستہ قد، بونا۔

دنج: دَنَجَ -دِنَاجًا الامرَ: کام کو مضبوطی سے یا پختگی سے
کرنا۔ الدُنُج: دانا لوگ۔

○ دِنجل جمع دَنَاجِل: دھرا، دھری، دھرے کا ڈنڈا، گول
ڈنڈی۔

دنح: دَنَحَ -دُنوحًا و دَنَّحَ: ذلیل ہونا، سر جھکانا۔
الدِنح: مسیحی تہوار جو 6 جنوری کو مشرق کے تین
داناؤں کے بیت لحم میں حضرت عیسیٰ مسیح کے پاس
آنے کی یاد میں منایا جاتا ہے اس وقت حضرت مسیح
ابھی بچے تھے۔ عربی میں اسے عید الغطاس کہا جاتا ہے۔
یہ لفظ سریانی دِنحا: کا معرب ہے جس کا معنی ظہور
ہے۔

دنخ: دَنَخَ -دَنخانًا: بوجھ کی وجہ سے ست چلنا۔
دَنَّخَ: منکسر و فروتن ہونا۔ سر جھکانا، اپنے گھر میں رہنا۔
المُدَنِّخ: فحش گو، بدزبان۔

○ دَنْدُرمَة: آئس کریم (ترکی لفظ)

○ دَنَادِشَة: عام لوگ، غیر اہم لوگ۔

دند: ۱- دَنْدَلَ هُ: کو لٹکانا، تَدَنْدَل: لٹکنا (عامی زبان میں)
۲- دَنْدَنَ دَنْدَنَةً الذبابُ: مکھی کا بھنبھنانا۔ الرجلُ:
گنگنانا، غیر مفہوم کلام، بولنا۔ حولَ الماء: پانی
کے گرد گھومنا۔ الدِندِن: گنگناہٹ، بھنبھناہٹ، کہنگی
سے سیاہ ہو جانے والا پودا۔

○ دَنْدَنَ: بھنبھنانا، گنگنانا، دھیرے دھیرے گانا، دھیمے
سروں میں گانا، کراہنا، بہت آہستہ کہنا۔ دِندِي: ترکی
مرغ۔

دنر: دَنَّرَ تَدنيرًا الدينارَ: دینار ڈھالنا۔ الوجهُ: چہرہ
کا چمکنا۔ دَنِرٌ: بہت دیناروں کا مالک ہونا۔ الدينار
جمع دَنانير: سونے کا ایک پرانا سکہ (لاطینی) حَشِيشَةُ
الدينار: ایک قسم کا پودا۔

دنس: دَنِسَ -دَنَسًا و دَنَسَةً عرضهُ او ثوبهُ او خُلقهُ:
عزت و اخلاق کا عیب دار ہونا، کپڑے کا میلا ہونا۔
صفت: دَنِسٌ جمع اَدْنَاس و مَدانيس دَنَّسَ هُ: کو
میلا کرنا، کہا جاتا ہے۔ دَنَّسَهُ سوءُ خُلقهِ: اس کی
بدخلقی نے اس کو عیب دار کرایا۔ تَدَنَّسَ: میلا کچیلا ہونا۔
الدَنَس (مص) جمع اَدناس: میل کچیل۔ المَدانِس:
عیوب، گندی جگہیں۔ کہا جاتا ہے۔ هو يتصوَّن
من الادناس و المَدانِس: وہ عیوب سے اپنا دامن
بچاتا ہے۔

○ دَنِسَ -دَنَسًا: گندا ہونا، داغدار ہونا، میلا ہونا، غلیظ
ہونا، آلودہ ہونا۔ دَنَّسَ هُ: کو گندا کرنا، داغدار کرنا،
میلا کرنا، غلیظ کرنا، آلودہ کرنا، خراب کرنا، ناپاک کرنا،
نجس کرنا، کی ذلت کا موجب ہونا، کی بے عزتی کرنا،
بے ادبی کرنا۔ تَدَنَّسَ: گندا ہونا، داغدار ہونا، میلا
ہونا، غلیظ ہونا، آلودہ ہونا، خراب ہونا، ناپاک ہونا،
نجس ہونا، بے ادبی کیا جانا۔ دَنَس: جمع اَدْناس: میلا
پن، گندگی، غلاظت، خستگی، زبوں حالی، داغ، دھبہ،
غلطی، خطا، قصور، رخنہ۔ دَنِس: جمع اَدناس و
دُنَاساء: میلا کچیلا، گندا، داغدار، آلودہ، برا، خراب،
فحش، بدزبان، بے حرمتی کیا ہوا۔ تدنيس: آلودگی،
بے حرمتی، گندا کرنا، دھبا لگانا، داغ لگانا، نجاست، بے
عزتی، بے حرمتی۔

دنع: ۱- دَنَعَ -دُنوعًا و دَناعَةً: کمینہ ہونا، بے خیر ہونا،
صفت۔ دانِع و دَنِع و دَنِيع و دَنِيعَة
دَنِعَ -دَنَعًا: ذلیل ہونا، کمینہ ہونا۔ رجلٌ دَنَعَةٌ:
بے خیر آدمی۔ کہا جاتا ہے۔ هو من دَنَعِ الناس: وہ
رذیل لوگوں میں سے ہے۔
۲-دَنِعَ -دَنَعًا: بھوکا ہونا، بھوک محسوس کرنا۔
۳- اَدنَعَ: نیکوں کی راہ چلنا۔

دنف: ۱- دَنِفَ -دَنَفًا المريضُ: بیمار کا شدت مرض سے
قریب المرگ ہونا۔ ت الشمسُ: سورج کا ڈوبنے
کے قریب ہونا، زرد پڑنا۔ الامرُ: کام کا نزدیک
ہونا۔ اَدنَفَ المريضُ: بیمار کی بیماری کا شدید ہونا،
بیمار کا قریب المرگ ہونا۔ ت الشمسُ: سورج کا
غروب ہونے کے قریب ہونا، زرد پڑنا۔ هُ المرضُ:
بیماری کا کسی کے لئے برداشت کرنا مشکل ہونا۔
الشيءَ: کو قریب کرنا۔ الدَنَف (مص): سخت
مزمن بیماری، مزمن بیماری کا مریض۔ (سب کے لئے
یکساں ہے) کہا جاتا ہے۔ رجلٌ دَنَفٌ و امرأةٌ
دَنَفٌ و هم دَنَفٌ: مزمن بیماری والا مرد، مزمن بیماری
والی عورت، وہ مزمن بیماری والے ہیں۔) کہا جاتا
ہے۔ كادت الشمسُ تكون دَنَفًا: سورج غروب
ہونے کے قریب ہے۔ الدَنِف: جمع اَدناف:
مؤنث دَنِفَة: جمع دَنِفات: لمبی بیماری کا مریض۔
۲- دَنْفَشَ: ترچھی نگاہ سے دیکھنا، انکھیوں سے دیکھنا۔

○ دَنِفَ -دَنَفًا و اَدنَفَ: سخت بیمار ہونا۔
دَنِف جمع اَدناف: سخت بیمار۔ دَنَف: لمبی بیماری۔
مُدْنِف و مُدنَف: کمزور، دبلا پتلا۔

دنق: ۱- دَنَقَ -دُنوقًا: حریص ہونا، باریک امور نکالنے کے
حریص ہونا۔ صفت۔ دَنِيق: جمع دُنُق۔ دَنَّقَ اليه
النظرَ: پر ٹکٹکی لگانا، کو گھورنا۔ الشيءَ: کو پوری

طرح لینا۔

۲۔ دَنِقَ ۔دَنَقًا و دَنِیقًا: سردی سے مرجانا۔ دَنَّقَ: سردی سے مرجانا صفت: مُدَنِّق۔ الوجہُ: غم یا بیماری سے چہرے کا کمزور ہوجانا۔ الرجلُ: مرنا۔ ۔۔ للموت: قریب المرگ ہونا۔ ۔۔ ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ ۔۔ ت العینُ: آنکھ کا دھنس جانا۔

۳۔ الدَانِق: احمق، چور، ۔۔۔ و الدَانَق: جمع دَوَانِق و دَوَانِیق: درہم کا چھٹا حصہ۔ الدُنقَۃ: گیہوں میں ایک قسم کا دانہ۔

۴۔ دَنْقَسَ: کنکھیوں سے دیکھنا، ترچھی نظر سے دیکھنا۔ ۔۔ بینھم: لوگوں میں فساد ڈالنا۔

○ دُنقُلَۃ: شمالی سوڈان کا دریائے نیل کے کنارے ایک شہر۔

دنك دَنْكَسَ فی بیتہ: گھر میں چھپ کر بیٹھ رہنا اور لوگوں کی حاجتوں کے لئے باہر نہ نکلنا۔

○ دِنکِل: بمعنی دِنجِل: (دیکھو دنجل)

○ دَنمَرك: ڈنمارک Denmark

دنا: ا۔ دَنَا یَدْنُو دُنُوًّا و دَنَاوَۃً للشیء و منہ و الیہ: کے قریب ہونا۔ صفت: دَانٍ: جمع دُنَاۃ۔ دَنَّی تَدْنِیَۃً ہُ: کو قریب کرنا۔ ۔۔۔ فی الامور: ہر چھوٹے بڑے کام کے پیچھے لگنا۔ دَانَی مُدَانَاۃً القیدَ: بیڑی کو تنگ کرنا۔ ۔۔ بین الامرین: دونوں امروں کے وسط میں ہونا۔ ۔۔ الامرَ: امر کے نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ اَدْنَی اِدْنَاءً: قریب آنا، قریب ہونا۔ ۔۔ ہُ: کو قریب کرنا۔ ۔۔ السترَ: پردہ لٹکانا۔ تَدَنَّی: تھوڑا تھوڑا قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ بعیدٌ یَتَدَنَّی خیرٌ من قریب یتبعّد: تھوڑا تھوڑا کر کے قریب ہونے والا بعید اس قریب سے بہتر ہے جو دور ہٹ جائے۔ تَدَانَی تَدَانِیًا القومُ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ اِدَّنَی: قریب ہونا۔ اِستَدْنَی ہُ: سے قریب آنے کی درخواست کرنا۔ الدُنیا: جمع دُنًی: موجودہ زندگی، نسبت کے لئے۔ دُنْیَوِیّ و دُنْیَاوِیّ و دُنْیِیّ: کہا جاتا ہے۔ ھو فی دنیا دانیۃ: وہ آسودہ زندگی میں ہے جو چاہتا ہے قریب سے لے لیتا ہے۔ ھو ابنُ عمّ دِنْیٍ و دِنْیًا و دُنْیًا و دِنْیَۃً: وہ نسب سے متعلق ہونے والا چچازاد بھائی ہے۔ نَاقَۃٌ مُدْنٍ و مُدْنِیَۃ: وضع حمل کے قریب پہنچی ہوئی اونٹنی۔ الدَنَاوَۃ (مص): قرابت کہا جاتا ہے۔ بینھما دَنَاوَۃٌ: ان دونوں کے درمیان قرابت ہے۔ الاَدْنَوْن: نسب میں قریب ترین رشتہ دار لوگ۔

۲۔ دَنِیَ یَدْنَی دَنًا و دَنَایَۃً: گھٹیا اور ردی ہونا۔ صفت: دَنِیّ: جمع اَدْنِیَاء۔ اَدْنَی اِدْنَاءً: تنگ زندگی گزارنا۔ تَدَانَی ت ابلُہُ: کم اور کمزور اونٹوں والا ہونا۔ المُدَنِّی (مفع) من الرجال: کمزور آدمی۔ الاَدْنَی: جمع اَدَانٍ و اَدْنَوْن مؤنث دُنْیَا جمع دُنًی: دنی کا اسم تفضیل۔

○ دَنَا ۔دُنُوًّا و دَنَاوَۃً: نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ ۔۔ من / الی / ل: کے قریب آنا یا جانا کے پاس جانا۔ کے لگ بھگ ہونا، قریب ہونا۔ ۔۔۔ (وقت واقعہ کا) قریب آنا، نزدیک ہونا، سر پر کھڑا ہونا۔ دَنَا بہ من: کو کے قریب کرنا۔ دَنِیَ ۔دَنًا و دَنَایَۃً: کمینہ ہونا، کمینہ بن جانا، برا ہونا، یا بن جانا، فرومایہ ہونا یا ہو جانا، ذلیل ہونا یا ہوجانا، قابل یا لائق مذمت ہونا، یا ہوجانا۔ دَنَّی ہ / ہ من: کو کے قریب کرنا۔ ۔۔ ہ من: کو کے لگ بھگ کرنا۔ ۔۔۔ فی: میں مشغول ہونا، کی چھان بین کرنا، کو تن دہی سے کرنا۔ دَنَّی نفسَہُ: خود کو نیچا کرنا، ذلیل کرنا۔ دَانَی ہ / ہ: کے قریب ہونا، نزدیک ہونا، کے پاس جانا، کے لگ بھگ ہونا۔ ہ / ہ: کے معیار یا توقعات پر پورا اترنا۔ شیءٌ لا یُدانَی: سب سے برتر شے۔ اَدْنَی: نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ ۔من / الی / ل: کے پاس جانا آنا کے نزدیک جانا، کے قریب آنا۔ ۔۔ ہ / ہ من: کو کے قریب کرنا، قریب لیجانا۔ ۔۔ ہ من: کو کے لگ بھگ کرنا۔ ۔۔ ہ: کو نیچا کرنا، گرانا، (جیسے نقاب کو) تَدَنَّی الی: بتدریج کے پاس جانا۔ ۔۔: کمینہ ہونا، نیچے ہونا، جھکنا، مائل ہونا، خود کو ذلیل کرنا، نیچا کرنا۔ تَدَانَی: ایک دوسرے کے قریب ہونا، نزدیک ہونا، ایک دوسرے کے پاس جانا، باہم قریب ہونا۔ ۔من: کے قریب ہونا، کے لگ بھگ ہونا۔ اِدَّنَی: قریب ہونا، نزدیک ہونا، نزدیک آنا، قریب پہنچنا۔ اِستَدْنَی: زیادہ قریب ہونے کی خواہش کرنا۔ قریب تر ہونے کی کوشش کرنا۔ ۔۔ ہ الی: کو کے یا اپنے قریب تر لانے کا خواہاں ہونا۔ ۔۔ ہ: کے لئے ہاتھ بڑھانا۔ ۔۔ ہ الیہ: کے لئے کی دعا کرنا۔ دُنُوّ: آمد، پہنچ، رسائی، نزدیکی، قرب، قرابت، قریب ہونا، (کسی واقعہ وغیرہ کا) دَنِیّ: جمع اَدْنِیَاء: قریب، نزدیک، کمینہ، ذلیل، برا، فرومانہ، سفلہ، حقارت آمیز، قابل یا لائق مذمت، ادنی، رسوا، رسوائے عالم، فاسق، بدکار، ادنی درجے کا، دَنِیَّۃ: جمع دنیات و دنایا: کمینہ عادت یا خصلت، شرمناک بات، بدنامی، برا کام، اَدْنَی: مؤنث دُنْیَا جمع اداَن و ادنون مؤنث دُنًی: قریب، نزدیک تر، نیچے واقع، نچلا، نیچے کا، زیریں، زیادہ نیچا، ادنی، زیادہ نشیبی، زیادہ چھوٹا، کم اہمیت کا، زیادہ مناسب، بہتر یا زیادہ موزوں زیادہ شایاں۔ الشرق الاَدْنَی: شرق ادنی۔ المغرب الاَدْنَی: الجیریا۔ ادنی من حبل الورید: بہت نزدیک یا قریب، سر پر کھڑا۔ الاقارب الادنون: قریب ترین رشتہ دار۔ من اَدْنَاہُ الی اَقْصَاہ: ایک سرے سے دوسرے تک، مکمل طور پر، پوری طرح، سارا سب ملاکر، یکسر، تمام تر، بالکل۔ الحد الاَدْنَی: کم سے کم۔ اَدْنَاہُ: نیچے، المُوَقِّعُون ادناہ: زیر دستخطی، جن کے نیچے دستخط ہیں۔ لا اَدْنَی: کم سے کم نہیں۔ دنیا: (اَدْنَی: کا مؤنث) دنیا، عالم، زمین، یہ دنیا (آخرت کے مقابلہ میں) اس دنیا کی زندگی، مادی وجود، دنیاوی، مادی، دنیوی، ...... زمینی چیزیں، پریشانیاں۔ الحیاۃ الدُنْیَا: اس دنیا کی زندگی۔ اُمّ الدنیا: قاہرہ۔ اَقَام الدنیا و اقعدھا: ہلچل پیدا کرنا، کسی چیز کے حصول کے لئے، ہر ممکن کوشش کرنا، دُنْیَوِی و دُنْیَاوِیّ: دنیاوی، دنیوی، لادینی، غیر مذہبی، زمانی، ناپائیدار، عارضی، وقتی، آنی جانی، گریزپا، برق پا۔ دَنَاوَۃ: نزدیکی، قرب، قرابت، انکسار، عجز و نیاز گراوٹ، پستی، نشیب، رذالت، کمینگی، حرامی پن، پاجی پن، کمینہ پن، بدمعاشی، ذلت، خباثت۔ تَدَنٍّ: غروب ہونا، ڈوبنا، زوال، جھکاؤ، نچلی سطح، پستی کی انتہا، التَدَنِّی الاخلاقی: اخلاقی انحطاط دانٍ: نیچا، قریبی، نزدیکی۔ مُتَدَانٍ: باہم قریب۔

دھث: دَهَثَ ۔دَهْثًا ہُ: کو دفعہ کرنا، ہٹانا۔

دھد: ا۔ دَهْدَمَ البناءَ: عمارت کو مسمار کرنا۔ تَدَهْدَمَ: (عمارت کا) مسمار ہوجانا۔

۲۔ دَهْدَہَ و دَهْدَی الحجرَ: پتھر کو لڑھکانا۔ تَدَهْدَہَ و تَدَهْدَی: لڑھک جانا۔ الدُهْدُوہ و الدُهْدُوَّۃ و الدُهْدِیَّۃ: وہ چیز جس کو سیاہ بھونرا لڑھکاتا ہے۔ الدَهْدَا و الدَهْدَاء (ح): چھوٹے اونٹ۔ کہا جاتا ہے۔ ما اَدری ایُّ الدَهْدَاء ھو: میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے۔

دھر: ا۔ دَهَرَ ۔دَهْرًا القومَ و بالقوم امرٌ مکروہٌ: لوگوں پر کوئی ناپسندیدہ چیز آپڑنا۔ الدَهْر: جمع اَدْهُر و دُهُور: مصیبت، محدود عرصہ، لمبا زمانہ، (کہا جاتا ہے۔ لا آتیہ دھر الداھرین: میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا) غلبہ، عادت (کہا جاتا ہے۔ ماذاك بدھری: یہ میری عادت نہیں) غایت، انتہا، (ماذھری بکذا: یہ میری غایت وانتہا نہیں۔ دھرُ الانسان: وہ زمانہ جس میں انسان زندہ ہے۔ یہ عصر

کے ہم معنی ہے۔ الدُهْرِيّ: بہت بوڑھا۔ الدَهْرِيّ: مادہ پرست جو کہتا ہے کہ عالم ازلی و ابدی ہے اس کا کوئی خالق نہیں۔ دهرٌ داهِرٌ و دَهِير. طویل و شدید زمانہ (مبالغہ) الدِهار و المُدَاهَرَة: طویل اور غیر معیادی معاملہ کرنا۔ الدَهْرِيَّة: عالم کو قدیم ماننے والا فرقہ۔ الدَهَارِير. پرانے زمانے (اس کا واحد نہیں)، مصائب، مصیبتیں، آفتیں، مصائب زمانہ، کہا جاتا ہے۔ دُهُورٌ دَهَارِيرٌ: لمبے زمانے، كان ذلك فى دهر الدهارير یہ پرانے زمانے میں تھا۔

٢۔ دَهْوَرَ الشيءَ فتَدَهْوَرَ: چیز کو گڑھے میں گرانا، پھینکنا تو اس کا گڑھے میں گر جانا، کہا جاتا ہے۔ دَهْوَرَ الكلامَ: بغیر سوچے سمجھے کسی بات میں دوسری بات شامل کر دینا۔ کہا جاتا ہے۔ دَهْوَرَ اللقمَ: لقمے منہ منہ میں گھما کر نگلنا۔ تَدَهْوَرَ الليلُ: رات کا گزر جانا۔

○ دَهْر: جمع دُهُور و اُدْهر: زمانہ، طویل زمانہ، عمر، عہد، دور، مدت، ایک عمر، عمر بھر، دوام، ابد، ابدیت، بڑا لمبا عرصہ، طویل مدت مقدر۔ بَنَاتُ الدهر مقدر کی آفتیں، آزمائشیں، مصائب، رنج، و آلام، تکالیف، بدبختی، بدنصیبی، بدقسمتی۔ تصاريفُ الدهر و صُرُوفُ الدهر: زمانہ کے نشیب و فراز، تغیرات، نصیب کی تبدیلیاں، آفات، مصائب ادبار، نحوست، ناساعد حالات، دهرَ الداهرين: ہمیشہ ہمیشہ کے لئے الى آخِرِ الدهر: ہمیشہ ہمیشہ کیلئے۔ الدهرَ كُلَّهُ: زندگی بھر کبھی نہیں۔ دَهْرِيّ: مادہ پرست و ملحدانہ عقیدہ کا پیروکار، ملحد، کافر، دہریہ، آزاد خیال، لامذہب۔ دُهْرِی: بہت بوڑھا، از حد عمر رسیدہ۔

دهس: ١۔ دَهِسَ دَهَسًا المكانُ: جگہ کا نرم ہونا، صفت: اَدْهَس مونث دَهْسَاء: جمع دُهْس۔ اَدْهَسَ القومُ: نرم زمین پر چلنا۔ الدَهْس والدَهَاس: جمع اَدْهَاس: نرم جگہ۔ دَهَاسَةُ الخُلُقِ: طبیعت کی نرمی، نرم مزاجی۔

٢۔ دَهَسَ دَهْسًا: سختی سے نیچے لے لینا۔ کہا جاتا ہے۔ دهسته السيارةُ: وہ کار کے نیچے آ گیا۔ مَدْهُوس: گاڑی کے نیچے آ جانے والا۔ الدَهَس: نباتات جن پر سبز رنگ کا غلبہ نہ ہوا ہو۔ وہ زمین جس پر اچھی طرح طرح روئیدگی ظاہر نہ ہوئی۔ الأدْهَس: سرخی مائل سیاہ۔ الدُهْسَة: سرخی مائل سیاہی۔

○ دَهَسَ دَهْسًا: (بمعنی داسَ) ہ: کو پاؤں تلے روندنا، کچلنا۔ ـــ ہ: پر چلنا، قدم رکھنا، ـــ ہ: کو نیچے لے لینا۔

دهش: دَهِشَ دَهَشًا و دُهِشَ: حیران ہونا، صفت۔ دَهِش و مَدْهُوش و دَهْشان۔ دَهَّشَ و اَدْهَشَ ہُ: کو حیران کرنا، مدہوش کرنا۔

○ دَهِشَ دَهَشًا و دُهِشَ من / ل: پر ششدر ہونا، حیران ہونا، متحیر ہونا، سے یا پر بھونچکا رہ جانا۔ ـــ من: سے حیرت زدہ ہو جانا، پر بڑا تعجب کرنا، سخت حیران ہونا۔ ـــ من / ل: سے چکرا جانا، حیران و پریشان ہو جانا، پر چونکنا گھبرانا، ہواس باختہ ہونا، سے الجھن میں پڑ جانا، بھونچکا و ششدر ہو جانا۔ دَهَّشَ وَ اَدْهَشَ ہ: کو ششدر کرنا، اچنبھے میں ڈالنا، متحیر کرنا، حیران کر دینا، بھونچکا کر دینا، کو چکرا دینا، حیران و پریشان کرنا، کو الجھن میں ڈالنا، حیرت میں ڈالنا، کو اور الجھا دینا، کو چونکا دینا، گھبرا دینا، حواس باختہ کر دینا، اِنْدَهَشَ بمعنی دَهِشَ۔ دَهَش: حیرانی، حیرت، اچانک یا بے خبری میں جا لینا، سراسیمگی یاس، خوف، استعجاب، ہول، دہشت، کھٹکا، دَهِش: ششدر، متحیر، حیران، بھونچکا، پریشان، چکرایا ہوا، الجھن میں ڈالا ہوا، دم بخود، حواس باختہ، گھرایا ہوا، چونکا ہوا، اطمینان و سکوں میں خلل ڈالا ہوا۔ چوکس، گھبرایا ہوا، دہشت زدہ، درہم برہم، پریشان، برہم بدحواس، ہوش اڑا ہوا۔ دَهْشَة: اچنبھا، سخت تعجب، استعجاب، خلاف توقع بات، حیرت، حیرانی، تعجب، سراسیمگی، خوف، مایوسی، حزن، پریشانی، دہشت، ہول، ڈر۔ اِنْدِهَاش: بمعنی دَهْشَة مُدْهِش: حیرت انگیز، حیران کن، عجب، معجز نما، خوب، مزے کی بات (جمع مدهشات:) حیرت انگیز چیزیں، عجائب و غرائب عجوبے، معجزات۔ مَدْهُوش و مُنْدَهِش: بمعنی دَهِش: نیز گھرا ہوا۔

دهق: ١۔ دَهَقَ دَهْقًا الكأسَ: پیالہ بھرنا۔ اَدْهَقَ الكأسَ: پیالہ بھرنا۔ الدهاق من الكُؤوس: بھرا ہوا پیالہ۔ کہا جاتا ہے۔ كأسٌ دِهَاقٌ: لبالب پیالہ۔ ماءٌ دِهَاقٌ: بہت پانی۔

٢۔ دَهَقَ دَهْقًا الماءَ: پانی کو شدت سے خالی کرنا۔ اَدْهَقَ ہُ: سے جلدی کرانا۔

٣۔ دَهَقَ دَهْقًا الشيءَ: کو توڑنا کاٹنا۔

٤۔ دَهَقَ دَهْقًا ہُ: کو مارنا پیٹنا۔

٥۔ اِدَّهَقَتِ الحجارةُ: پتھروں کا آپس میں سختی سے پیوست ہونا۔ الدَهَق: شکنجہ جس میں مجرموں کی پنڈلیاں بھینچی جاتی ہیں۔

٦۔ دَهْقَنَ القومُ فلانًا: قوم کا کسی کو سربراہ بنانا، چودھری بنانا، تَدَهْقَنَ: سربراہ یا چودہری ہونا۔ الدُهْقان والدِهْقان: جمع دهاقنة: (فارسی لفظ) چودھری، ذیلدار، نمبردار، تاجر۔ الدَهْقَنَة: چودھراہٹ، سربراہی۔

○ دَهَق: شکنجی جس میں مجرموں کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے ہیں۔ دِهَاق: بھرا ہوا (پیالہ) لبالب (بھرا ہوا) دِهْقَان: جمع دَهَاقِنَة و دَهَاقِين: اہم شخص، اہم کردار ادا کرنے والا، اہم ترین شخصیت، بڑی شخصیت (قدیم ایران میں) دَهَاقِينُ السياسة: سیاسی لیڈر (جمع)

دهك: دَهَكَ دَهْكًا الشيءَ: کو پیسنا، توڑنا، ـــ الارضَ: زمین کو روندنا۔

○ دَهَكَ دَهْكًا: کچلنا۔ ـــ ہ: کو ابال کر کچلنا۔

دهل: ١۔ الدِهْلِيز جمع دَهَالِيز: ڈیوڑھی، لمبا تنگ راستہ۔ ابناءُ الدَهاليز: گرے پڑے لاوارث بچے۔

○ الدَهْلِية (ن): بڑے پھولوں والا ایک پودا۔

○ تَدَهْلَزَ: (بڑے کمرے میں) ٹہلنا، چہل قدمی کرنا۔

○ دِهْلِيز: جمع دَهَالِيز: ڈیوڑھی، پیش دالان، گرجے کی برساتی، مجلس قانون کا وہ کمرہ جہاں عوام بھی جا سکتے ہوں لابی، داخلہ کا بڑا کمرہ غلام گردش۔ بڑا کمرہ، ہال۔ ابن الدِهْلِيز: جمع ابناء الدهاليز: گرا پڑا بچہ، بن ماں باپ کا۔

○ دِهْلِي: دہلی: بھارت کا دار الحکومت۔

دهم: ١۔ دَهَمَ و دَهِمَ دَهْمًا ہ الامرُ: پر کوئی معاملہ اچانک آ گرنا۔ دَهَّمَتِ النارُ القدرَ: آگ کا ہانڈی کو سیاہ کرنا۔ اِدْهَمَّ و اِدْهَامَّ اِدْهِيمامًا الفرسُ: گھوڑے کا سیاہ ہونا۔ الدُهْم: ماہ قمری کی آخری تین راتیں۔ الدَهْم: جمع دُهُوم: بڑی تعداد۔ الدُهَيْم والدُهَيْمَاء وامُّ الدُهَيْم: مصیبت۔ الأدْهَم: مونث دَهْمَاء جمع دُهْم: سیاہ۔ ـــ: جمع اداهِم: بیڑی۔ الدُهْمَة: سیاہی۔ الدَهْمَاء، الأدْهَم کا مونث: ہانڈی، قمری ماہ کی انتیسویں رات (ن): ایک قسم کی گھاس جس سے چٹائی بنتے ہیں۔ لوگوں کی جماعت۔ حديقة دَهْمَاء و مُدهامَّة: سیاہی مائل سرسبزی والا باغ۔

٢۔ اَدْهَمَ ہُ: کو غمگین کرنا۔

٣۔ الدُهْم: مخلوق۔ کہا جاتا ہے۔ ایُّ الدُهْمِ هو: وہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے؟۔ الدُهَيْم: احمق۔ الأدْهَم مونث دَهْمَاء جمع دُهْم: قدیم آثار جدید آثار۔

٤۔ دَهْمَجَ الشيخُ: بوڑھے کا بیڑی پہنے شخص کی طرح آہستہ چلنا۔ ـــ الخبرَ: خبر میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا۔ الدَهْمَج و الدُهَامِج: ہر بڑے جسم والی شے، دو کوہانوں والا اونٹ۔

○ دَهَمَ دَهْمًا و دَهِمَ دَهَمًاه: پر آ پڑنا، ٹوٹ پڑنا،

اچانک حملہ کرنا، کو اچانک جالینا، بے خبری میں جالینا، آلینا، کے پاس غیر متوقع طور پر آنا۔ ــــہ: میں اچانک داخل ہونا، پر چڑھائی کرنا، حملہ آور ہونا، حملہ کرنا۔ دَهَمَ ہ: کو کالا کرنا، سیاہ کرنا۔ دَاهَمَ ہ: پر نازل ہونا، گرنا، پڑنا، حملہ کرنا، کو مضبوطی سے پکڑنا، قبضہ میں کرلینا، (بیماری، یاس وغیرہ کا) کسی پر اثر انداز ہونا۔ کو اچانک آلینا، بے خبری میں جالینا، کو جرم کرتے ہوئے پکڑنا، پر اچانک حملہ کرنا، ٹوٹ پڑنا، ــــہ: پر چڑھائی کرنا، حملہ آور ہونا، حملہ کرنا، ــہ: کو اچانک آلینا، پکڑنا، اِدْهَمَّ: سیاہ ہونا۔ دُهْمَة: سیاہی۔

اَدْهَم مونث دَهْماء جمع دُهْم: سیاہ، گہرا سیاہ۔

داهية دهماء: مصیبت، شامت، آفت، عظیم تباہی۔

الدَهْماء: عوام، عام لوگ۔ عوام الناس۔ مُدَاهَمَة: پولیس کا دھاوا یا چھاپا، گھر کی تلاشی۔ مُدْهَمّ: بہت سیاہ، بہت تاریک، گہرا اندھیرا۔

دهن: ۱۔ دَهَنَ ـ دَهْنًا و دَهْنَةَ الرأسَ: سر میں تیل یا خوشبو لگانا۔ ـ الشیءَ: کو تر کرنا، تیل لگانا۔ دَهَّنَ الشیءَ: کو تیل لگانا، تر کرنا۔ تَدَهَّنَ و اِدَّهَنَ: تیل سے چکنا ہونا۔ الدُهْن: جمع اَدْهان و دِهان: دَهَنَ کا اسم (تر کرنا) دُهْنُ الشیءِ: کسی چیز کا تیل۔ ـ النخیل (ن): کھجور کے درختوں سے نکالا جانے والا تیل (استوائی افریقہ، سینگال اور غینا میں)۔ الـدَهْن (مص): اتنی بارش جس سے زمین تر ہو جائے۔ الـدُهْنَة: تھوڑا سا تیل۔ کہا جاتا ہے۔ هو طَيِّبُ الـدُهْنَة: وہ عمدہ خوشبو والا ہے۔ الدِهَان: وارنش، پینٹ، ادھوڑی، پھسلنے کی جگہ۔ الـدَهِين: تیل لگایا ہوا۔ الـمُدْهُن: جمع مَدَاهِن: تیل لگانے کا آلہ، وارنش کرنے کا برش، تیل کی شیشی۔ الـدَهَّان: تیل لگانے والا، تیل بیچنے والا، تیلی۔ الدَهَّاء (ن): سرخ گھاس جس کے پتوں سے چمڑا رنگا جاتا ہے۔ الدهانة بمعنی الدُهْن: تیل رنگ کرنے کی صنعت۔

۲۔ دَهَنَ ـ دَهْنًا و دَاهَنَ مُدَاهَنَةً و اَدْهَنَ ہُ: کو دھوکا دینا، فریب دینا، سے منافقت کرنا۔

۳۔ دَهَنَ ـ دِهانًا و دَهَانَةً ت الناقةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔ الـدَهين: کمزور۔ ناقة دهين: کم دودھ والی اونٹنی۔

۴۔ اَدْهَنَ علیه: پر باقی رکھنا۔ کہا جاتا ہے۔ ما ادهنت الا علی نفسك: اپنے سوا تو نے کسی پر کچھ باقی نہیں رکھا۔

۵۔ الدَهْناء: بیابان، ریگستان۔

ٮ دَهَنَ ـ دَهْنًا ہ/ ہ ب: کو سے تیل دینا، پر سے مالش کرنا، ملنا، گریس لگانا، دھبے ڈالنا، رگڑنا، پر سے انضاد کرنا، طلا کرنا، لیپ کرنا، ــــہ: پر روغن کرنا، کو لیپنا، پوتنا، استر کاری کرنا، پر داغ دھبے ڈالنا، پر وارنش کرنا۔ دَهَّنَ: بمعنی دَهَنَ۔ دَاهَنَ ہ: سے شرافت کے ساتھ پیش آنا۔ سے چاپلوسی سے کام نکالنا، کی خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا، کو دھوکا دینا، جل دینا، ٹھگ لینا، فریب دینا، سے زیادہ چالاک ہونے کے وجہ سے فائدہ اٹھانا۔ تَدَهَّنَ۔ دُهِنَ: کا صیغہ مجہول یعنی مثلاً تیل دیا جانا، مالش کیا جانا، ملا جانا، وغیرہ۔

دَهَّنَ: تیل دینا، گریس لگانا، روغن کرنا، لیپنا، پوتنا، استر کاری کرنا، داغ دھبے ڈالنا۔

دُهْن جمع ادهان و دُهُون و دِهان: تیل (خوردنی، مشین کا، جلد کا) گریس، چربی، روغن۔ دُهْنِي: تیل کا، تیل کا سا، روغنی، چکنا، تیل لگا، چربی دار چربیلا۔

دُهْنِيات: تیل، چربیاں چربی دار، چربیلی یا چکنی اشیاء۔

دَهْناء: ریگستان، بیابان۔ دَهَّان: گھروں میں رنگ کرنے والا، رنگ ساز۔ دَهِينَة: پوماد، بالوں میں لگانے کی خوشبو۔ دِهَان جمع دهانات و ادْهِنَة: حسن افزا کریم، کولڈ کریم، مرہم، متبرک تیل، مرہم والا تیل، رنگ، روغن، غازہ وارنش، منافقت، زمانہ سازی، مکاری، ریاکاری، دھوکا۔ دهان: (بلا جمع): روغن کرنا، رنگ، کرنا، لیپنا، پوتنا، استر کاری کرنا، سفیدی کرنا۔ وَرْشَةُ الدهان: رنگ روغن پینٹ وغیرہ کی دوکان۔ مُدَاهَنَة: چاپلوسی، تملق خوشامد، منافقت، زمانہ سازی، مکاری، ریاکاری، دھوکا، فریب۔

مُداهِن: چاپلوس، متملق، خوشامد کرنے والا، منافق، ریاکار، زمانہ ساز۔ مُدْهِن: چکنا، چرب، تیلیا، روغنی، تیل میں تر، روغن دار، چربی دار، چربیلا، چکنا۔

ٮ دَهْوَرَ ہ: کو نیچے پھینکنا، لڑھکانا، ڈگمگا کر گرانا، کا خاتمہ کرنا، کو ختم کرنا۔ تَدَهْوَرَ: گرنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا، لڑھکنا، گر پڑنا، کھٹ سے گرنا، بیٹھنا، نیچے گھسنا، سب سے نچلی سطح پر بیٹھ جانا۔ تَدَهْوُر: زوال، سقوط، خاتمہ، انحطاط، سرد بازاری، کساد بازاری۔

دهی ۱۔ دَهَى ـ دَهْيًا و دَهَى فلانًا: کو چالاک کی طرف منسوب کرنا۔ دَهِيَ ـ دَهْيًا و دَهَاءَةً و دَهَاءً: چالاک اور ہوشیار ہونا۔ صفت: دَاهٍ جمع دُهَاة و دَهٍ جمع دَهُون و داهِيَة جمع دَوَاهٍ: "تا" آخری لفظ میں مبالغہ کیلئے ہے۔ آپ کہتے ہیں: رجل داهِيَة وامرأة داهية: بہت چالاک مرد، بہت چالاک عورت۔ تَدَهَّى: چالاک اور ہوشیار ہونا۔ تَدَاهَى: جتلانا، چالاکی کرنا، چالاک بننا، ہوشیار بننا۔ الـدَهِيّ: جمع اَدْهِياء و دُهَواء: عقلمند، دانا، دوراندیش۔ الدَهاء: زیرکی، ہوشیاری، مہارت۔

۲۔ دَهَى ـ دَهْيًا و دَهَى فلانًا: پر عیب لگانا، کا مرتبہ گھٹانا۔ الدَهاء: مکر، حیلہ۔

۳۔ دَهَى ـ دَهْيًا و دَهَى فلانًا: کو مصیبت پہنچانا۔ دَاهَى مُداهاةً و دِهاءً القوم: لوگوں پر مصیبت ڈالنا۔ الـداهِيَة: جمع دَوَاهٍ: مصیبت، بڑا کام، ناپسندیدہ کام۔ داهِيَةٌ دَهْياء: سخت مصیبت۔ دَوَاهِي الدهر: حوادث زمانہ۔

ٮ دَهِيَ ـ دَهاءً: ہوشیار ہونا، چست و چالاک ہونا، تیز فہم ہونا، ذہین ہونا، فریبی ہونا، مکار ہونا، چلتا پرزہ ہونا، چالاک وعیار ہونا، حیلہ باز ہونا۔ دَهَى ـ دَهْيًا ہ: پر مصیبت کا آپڑنا، پر ناگہانی آفت آنا، کو مصیبت پڑنا، مصیبت کا متاثر کرنا۔ دَهَّى: بمعنی دَهِيَ۔ تَدَاهَى: ہوشیار بننا، چالاک وعیار بننا۔ دَهَاء: پھرتی، تیز فہمی، ہوشیاری، چالاکی، عیاری، مکاری، کائیاں پن، حیلہ سازی، فراست، حکمت، استادی، کاریگری، ہنرمندی، اَدْهَى: زیادہ ہوشیار و چالاک، زیادہ عیار، زیادہ سیانا، زیادہ گھاگ، زیادہ ذہین، زیادہ استاد، زیادہ کاریگر، زیادہ ہنرمند، زیادہ حیلہ باز، زیادہ آزمودہ۔ زیادہ استادی والا، زیادہ باریک بین، زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والا، زیادہ خوش تدبیر، زیادہ آفت کا مارا، زیادہ مصیبت زدہ، دَاهٍ: جمع دُهَاة: زیادہ چست و چالاک، تیز فہم، عیار، چالاک، پہنچا ہوا، کائیاں، استاد، نٹ کھٹ، سیانا، گھاگ، ذہین، ہوشیار، صائب الرای، باریک بین، ہوشیار، فریبی، مکار، حیلہ باز، چلتا پرزہ، سوجھ بوجھ رکھنے والا، خوش تدبیر شخص۔ اَهِيَة: چست و چالاک، تیز فہم، تیز طبع، ذہین، ہمہ دان، پرانا چلتا پرزہ شخص، عیار، مکار شخص۔ دَاهِيَة: جمع دَوَاهٍ: مصیبت، آفت۔ فَلْيَذْهَبْ فی داهية: وہ جائے جہنم میں۔

دوّ الدَوّ: دیکھو دوی

داء: دَاءَ ـ دَاءً و دَوْءًا: ا: بیمار ہونا صفت: دَاءٍ۔ اَدْوَأَ اِدْوَاءً و اِدَاءً و اِدَاءَةً: بیمار ہونا۔ ــــہ: کو بیمار کرنا، بنانا۔ صفت مُدِيءٌ۔ الداء جمع اَدْوَاء: بیماری۔ به داءُ الظبي: اس کو کوئی بیماری نہیں جیسا کہ ہرن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ فلانٌ مَيِّتُ الداء: فلان شخص کو اگر ایذا پہنچائی جائے تو وہ پھر بھی ایذا پہنچانے والے سے کینہ نہیں رکھتا۔ داءُ الثعلب: (طب): وہ بیماری جس سے سر کے بال گر جاتے ہیں۔ اس کو الحاصّة

کہتے ہیں۔ داء الحمد وہ بیماری جس میں کھال گرنے لگے۔ داء الفیل (طب) فیل پا کی بیماری۔ داء الذئب بھوک۔ الدّئبی بیمار۔

داء جمع أدْواء بیماری، روگ، علت، عارضہ نقص طبع، فساد فکر۔ داءُ الرقص سینٹ ویٹوس (Vitus) کا رقص۔ داءُ المنطقة روڑے، ایک جلدی مرض جس سے کمر کے قریب چتے پڑ جاتے ہیں اور سوزش ہوتی ہے۔

دوا دیکھو دوی۔

دوّب ہ کو بتدریج دور کرنا، کو پتلا، کمزور یا ناکارہ کرنا۔

دُوبارة دھاگا، رسی، سلی، ڈوری، پیکٹ یا گڈی باندھنے کی رسی، فیتہ۔ تانت، تر۔ بان، ریشہ طناب۔ پنھا۔

دُوبیت مقفی شعر جو چار نصف مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

داج داج دَوْجاً خدمت کرنا۔ الداجة فوج کے پیرو، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں۔ کہا جاتا ہے۔ ما ترکتُ حاجةً ولا داجة میں نے چھوٹی بڑی کوئی حاجت نہیں چھوڑی۔ الدوج جمہوریہ وینس کے سربراہ کا لقب تھا۔ اس کا معنی فوجی کمانڈر یا جنرل ہے۔

داح داح دَوْحاً البطنُ پیٹ کا پھول کر لٹک جانا۔ ۔ت الشجرةُ درخت کا بڑا ہونا۔ صفت: دائحة جمع دوائح۔ دوّح البطنُ پیٹ کا پھول کر لٹک جانا۔ ۔ المال مال کو جدا کرنا۔ تدوّح البطنُ پیٹ کا پھول کر لٹک جانا۔ اِنْداحَ البطنُ پیٹ کا پھول کر لٹک جانا۔ ۔ الشيءُ پھیلنا، چوڑا ہونا۔ الدَّوح بڑا وسیع گھر۔ الدَّوحة جمع دَوْح و جمع الجمع أدْواح بڑا پھیلا ہوا درخت، بڑا سائبان۔ الدُّوّاح بہت بلند اور بڑا۔

۲۔ الدّاح ریشم کا بنا ہوا کنگن، تصویر جسے لہرا کر بچوں کا دل بہلایا جاتا ہے۔ الداحة دنیا۔

انداح پھیلنا۔ دَوْح شاخیں، شاخ در شاخ درخت (جمع) دَوْحة اونچا درخت کئی شاخوں والا، شجرہ نسب، نقشہ یا جدول۔ داحَة لٹو، (بچوں کے کھیلنے کا)۔

داخ: داخَ ۔ دَوْخاً: ذلیل ہونا، عاجزی و فروتنی کرنا۔ ۔البلادَ ملک پر غالب ہونا اور اس پر قبضہ کرنا، اقتدار جمانا، ۔الرجل: کو چکر آنا (عام زبان میں)۔ دوّخ الرجل کو ذلیل و عاجز کرنا۔ ۔ الوجعُ راسهُ دردسر کا سر کو چکر دینا۔ ۔ و دَيّخ البلادَ ملک پر غالب آ کر اس پر قبضہ کرنا۔ ملک میں گھوم پھر کر اس سے واقف ہونا اور راستوں کا پتہ چلانا۔ اَداخَ إداخةً کو ذلیل کرنا۔ الدَّوخة چکر دوران سر۔ اس کے لئے فصیح لفظ دوار اور هُدام ہیں۔ ليلٌ دائخ تاریک رات۔

داخ دَوْخاه ملک کو فتح کرنا اور زیرنگیں کرنا۔ ۔ فروتنی کرنا، عاجزی کرنا، سرگراں ہونا، کا سر چکرانا، بیمار ہونا، متلی محسوس کرنا۔ دوّخ ہ لوگوں کو فتح کرنا، زیرنگین کرنا۔ ۔ہ کو فرمانبردار بنانا، زیر کرنا، مغلوب کرنا، قابو میں کرنا، ذلیل کرنا، نیچا دکھانا نگاہوں سے گرانا، کو سرگراں بنانا، کو جان بوجھ کر چھیڑنا، کا ناک میں دم کرنا، کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، کو ذہنی صدمہ پہنچانا، کے ہوش اڑا دینا، کو بدحواس کرنا، گھبرا دینا۔ دوّخ راسهُ کا سر چکرا دینا، کو سرگراں کر دینا۔ دَوْخة چکر، سرگرانی، دوران سر، بے ہوشی، متلی مالش، دائخ سرگراں، تَدْوِيخ زیرنگین، تسلط قائم کرنا فتح۔

داد ا۔ دادَ۔دَوْدًا و دَوَّدَ و دِيْدَ و أدادَ إدادةً الطعامُ کھانے میں کیڑے پڑنا۔ صفت: مَدُود۔ الدُّودَة جمع دُوْد و دِيدان کیڑا۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ دُوْدَةُ القَزّ ریشم کا کیڑا۔ الدُّواد (ح) چھوٹے کیڑے۔ الدُّوَيد دُوْد کی تصغیر، چھوٹا کیڑا۔

۲۔ الدُّواد تیز رفتار آدمی۔ الدِّيْداء تیز دوڑ۔ الدُّوْداة: جو دَوَادِی جھولا، ہنڈولہ۔

۳۔ الدُّوادار و الدُّوَيْدار منشی، کاتب (فارسی لفظ)

دَوَّدَ کیڑے کا کھایا ہوا ہونا یا ہو جانا۔ دُوْد: واحد دُوْدَة: جمع دِيدان۔ کیڑا، پھلاروپ (کیڑا، لاروا، تتلی، یا پتنگے کا) پھلاروپ، ۔دُوْدَةُ الحرير / دُوْدَةُ القَزّ: ریشم کا کیڑا۔ دود القَرْع و دود قَرْعِي: آنتوں کے کیڑے ascarids دودُ القِرْمِز: میکسیکو کے وہ خشک کیڑے جن سے قرمزی رنگ بنایا جاتا ہے، قرمز دودُ المِشّ: پنیر کے کیڑے، الدودة الوحيدة: فیتے کی طرح لمبا کرم جو معدے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ دُوْدِيّ: کیڑے جیسا، کیڑے کی شکل کا، مَدُوْد و مُدَوِّد: کرم خوردہ، گھن لگا۔

مِزْوَد: بمعنی مِزْوَد: جمع مَزاوِد: تھیلا (کھانے پینے کے سامان کا) کینوس کی خرجی۔

دار ا۔ دارَ۔دَوْراً و دَوَراناً: گھومنا، چکر کھانا۔ ۔ بالشيء و عليه و حولهُ: کے گرد گھومنا۔ ۔الدهرُ: زمانہ کا پلٹا کھانا، بدلنا۔ دِيْرَ بِهٖ: کا سر چکرانا، کو دوران سر لاحق ہونا۔ دوّرهُ و بہ: کو گھمانا، چکر دینا۔ داوَرَ مُداوَرةً و دِواراً الشيءُ: کے ساتھ پھرنا، گھومنا۔ اَدارَ إدارةً الشيءُ: گھومنا۔ ۔ہ و بہ: کو گھمانا، چکر دینا، ۔ہٗ عن حقہ: سے اپنے حق کو چھوڑ دینے کی خواہش کرنا۔ اُدِیرَ بہ: کا سر چکرانا، کو دوران سر لاحق ہونا۔ اِستَدارَ اِستِدارةً چکر لگانا، گھومنا۔ ۔ الشيءَ و بہ: کو چکر دینا۔ کہا جاتا ہے۔ استدار ما في قلبي اس نے میری دل کی بات کا پتہ لگا لیا۔ الدار سال، زمانہ۔ الدَّوْر (مص) جمع أدْوار حرکت، گردش، چکر، دفعہ، (مو) دو یا دو سے زائد شعروں کا قطعہ۔ علم الأدوار علم موسیقی۔ فن موسیقی۔ الدَّوْرة: دار کا اسم مرة۔ الدُّوار و الدَّوار (طب) سر کا چکرانا۔ عام لوگ اس کو دوخة کہتے ہیں۔ الدَّوّار و الدَّوّاري بہت گھومنے پھرنے والا۔ کہا جاتا ہے۔ الدهرُ دَوّارٌ و دَوّاريٌّ بالانسان زمانہ انسان کے ساتھ الٹنے پلٹنے والا ہے۔ دَوّارُ الشمس (ن) سورج مکھی۔ مَدارُ الشيءِ جس پر کوئی چیز چکر کھائے۔ ۔الأمر کا دار و مدار۔ الدائرة جمع دَوائر مصیبت میں کہتے ہیں۔ دارت عليهم الدوائر: ان پر زمانہ کی مصیبتیں اور آفتیں ٹوٹ پڑیں۔ الدَّوَران (مص) چکر (کسی چیز کے گرد۔ کسی محور کے گرد نقطہ کا چکر۔ الدَّوْرِيّة چوکیدار وغیرہ کا گشت۔

۲۔ دَوَّرَهُ: کو گول بنانا۔ اَدارَ إدارةَ الأمرِ: کا احاطہ کرنا۔ تَدَوَّرَ: گول ہونا۔ اِستَدارَ استدارةَ الشيءُ گول ہونا۔ الدّارة: جمع دارات و دُوْر: دائرہ، حلقہ، چاند کا ہالہ، پہاڑوں کے درمیان کی وسیع زمین۔ ۔ و الدِّيرة و التَّدْوِرةُ من الرمل: گول ریتلی جگہ۔ مَدارُ کوکب (فلک): ستارے کا مدار۔ الدائرة جمع دوائر حلقہ، جو کسی شے کو گھیرے ہوئے ہو، انسان کی پیشانی کے پاس بالوں کی بھنوری، گھوڑے کے بدن پر بالوں کی بھنوری۔ (مو) ربط کا محیط۔ دائرہ سطح جس کو ایک خط گھیرے ہوا اس خط کو محیط الدائرة کہتے ہیں۔ اس کے غیر متحرک نقطہ سے جسے مرکز الدائرہ کہا جاتا ہے۔ تمام نقاط یکساں فاصلہ پر ہوتے ہیں۔ قطر الدائرة: وہ خط مستقیم جو دائرہ کو دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر دے اور مرکز دائرہ پر گذرتا ہوا جائے۔ المُدارة: ڈول کی ایک قسم۔ الدُّوّارة من الرأس: سر کا گول حصہ۔ دُوّارةُ البطن: بکری کا اوجھ۔ الدَّوّاة: پرکار۔ ۔ من الارض: زمین کا ایک چھوٹا قطعہ جس کی لمبائی چوڑائی کے قریب قریب ہو۔ ۔ من الراس: سر کا گول حصہ۔

۳۔ داوَرَ مُداوَرةً و دِواراً علی الامر: کسی کام کو انجام دینا۔ ۔ الامورَ: کاموں کو انجام دینے کیلئے غور و فکر

کرنا۔ اَدَارَ اِدَارَةً الشیءَ کو لینا ـہُ علیه ۔ کو پر لازم کرنے کا ارادہ کرنا۔ الاِدَارَ ــــة ادار کا اسم و مصدر۔ المُدیر گورنر، منیجر، منتظم۔ الدارِیّ ملاح جو پتوار کا نگہبان ہو۔

۴۔ تَدَیَّرَ البقعةَ کسی قطعۂ زمین پر گھر بنانا۔ الدار (مونث کبھی مذکر بھی مستعمل ہے) جمع دُوْر و دِیار واَدْوُر و اَدْوُر و اَدْوِرَة و دِیارة و اَدْوار و دُوْرات و دِیارات و دُوْرَان و دِیْرَان: گھر، مکان، شہر، قبیلہ، کہاجاتا ہے۔ مَرَّتْ بنا دارُ بنی فلان: فلاں قبیلہ ہمارے پاس سے گزرا۔ عند الفقہاءِ خالی جگہ جو گھروں اور کھلے صحن پر مشتمل ہو۔ دارالحرب دشمن کا ملک۔ دارُ القرار آخرت۔ الداران دنیا و آخرت۔ الدیر جمع اَدْیِرَة و دُیُوْرَة و اُدْیار عابدوں کی رہائش گاہ، خانقاہ۔ الدارة: جمع دارات و دُوْر محل یعنی رہنے کی جگہ، قبیلہ۔ دارات العرب عرب کے مشہور مقامات جو ایک سو دس سے زائد ہیں۔ الدارِیّ: چوپایوں اور مویشیوں کا مالک، عطر فروش، کہاجاتا ہے۔ ما فی المکان دارِیٌّ او دُوْرِیٌّ او دَیّارٌ او دَیُّوْرٌ: گھر میں کوئی نہیں ہے۔ الدُّوْرِیّ (ح): چڑیا۔ الدارِیَّة: گھر میں پڑا رہنے والا۔ ۃ مبالغہ کی ہے۔ الدَّیْرانِیُّ والدَّیّار۔ دیروالا، خانقاہ والا (مالک یا ساکن)

(ن) دارَ دَوْراً دَوَرَاناً ب/علی/حول۔ کسی چیز یا شخص کے گرد چکر کھانا، گھومنا، گردش کرنا، باری باری آنا، چکر میں حرکت کرنا، پھرنا، چکر کاٹ کے آنا۔ ــــ گردش کرنا، شروع کرنا، پھرنا شروع کرنا، گردش کرنا، پھیلنا، مشہور ہونا، رائج ہونا، افواہوں وغیرہ کا گردش کرنا، (مشین یا انجن کا) دوڑنا، چلنا، رواں ہونا (انجن کا) دوڑنے لگنا، گھومنا، پھرنا، ــــ علی لوگوں میں چکر لگانا، مسلسل کئی لوگوں کے پاس جانا۔ ــــ مڑنا، چہرہ موڑنا، رخ بدلنا، مختلف ہوجانا، مختلف موڑ مڑنا۔ ــــ علی کا مخالف ہوجانا۔ علی/حول سے متعلق ہونا، پر ہونا، سے علاقہ رکھنا، سے تعلق رکھنا، سے واسطہ ہونا، کے لئے اہم ہونا۔ ــــ ہونا جاری ہونا، ہو رہا ہونا، چل رہا ہونا، ــــ بین کے مابین زیر بحث ہونا، مذاکرات ہونا، بات چیت ہونا، ــــ ب کو پھیلانا، مشہور کرنا کسی کی راہنمائی کرنا، لے جانا، دار بعینیه و بنظره فی اپنی نگاہیں پر پھیرنا۔ دُرْ الٹا پھر (فوجی حکم) دار راسُهُ کا سر چکرانا، دارمَعَ الفُرَص بادبان ٹھیک لگانا، اپنے آپ کو صورت حال کے مطابق بدلنا۔ دارت رحیٰ الحرب جنگ شروع ہوگئی۔

المعارك التی دارت رحاها اس کل جو معرکے بہت زوروں کے ہوئے۔ داربنفسه اس کے دل میں آیا۔ دار علی الاَلْسُن بہت بحث ہونا، ہر ایک کی زبان پر ہونا۔ دار علی الافواه و اسلات الاقلام: بولی اور لکھی جانے والی دونوں زبانوں میں رائج ہونا، عام استعمال میں ہونا، عموماً مسلمہ (الفاظ وغیرہ) ہونا۔ دار بلادا و اکل اعیادا۔ وہ دنیا میں گھوما پھرا اور بہت کچھ دیکھا۔ دار بالهُ الی/علی کی طرف توجہ مبذول کرنا، کے بارے میں محتاط ہونا۔ دارت علیهم الدائرة مصیبت نے اچانک ان کو آلیا۔ دَوَّرَ ہ/ب: کو چکر دینا، گھمانا، تیز گھمانا، گردش دینا، باری باری لانا، کو موڑنا، الٹا کرنا، اوندھا کرنا، ــــ ہ کو گول بنانا یا کرنا، پھیلانا، کو چالو کرنا، چلانا، متحرک کرنا، (گھڑی، گھنٹے) کو چابی دینا۔ ــــ علی کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کی تلاش کرنا، کی تلاشی لینا۔ دَوَّرَ راسهُ: کا سر موڑنا، کو قائل کرنا، منوانا، ہوش میں لانا۔ داوَرَہ: کے ساتھ جانا، سیر کرنا، کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنا، خوش آمد درآمد سے کسی کو کسی کام پر مجبور کرنا یا مجبور کرنے کی کوشش کرنا، کسی کو دھوکا دینے کی کوشش کرنا۔ ــہ عن/علی: بے ایمانی سے کسی سے کچھ حاصل کرنا، ــــ فرار ہونا، بچنا، ادھر ادھر ہٹنا، سزا سے بچ نکلنا۔ اَدَارَہ: کو موڑنا، چکر دینا، گھمانا، گردش دینا، باری باری لانا۔ ہ/ب: کو موڑنا، ــراسهُ الی: اپنا سر کی طرف موڑنا۔ ہ الی/علی کا رخ کی طرف کرنا، پھیرنا، ــ ہ: کو پھیلانا (مشین وغیرہ) کو چالو کرنا، چلانا، ــ المُحَرِّكَ: (موٹر انجن) سٹارٹ کرنا، ــ شرائط ناطقة: فیتیں چلانا، ــہ: پر عمل کرنا، کوئی چیز چلانا، ڈرائیو کرنا، (منصوبہ، کام) جاری کرنا، ــــ ہ کی طرف توجہ دینا، کو شروع کرنا، ــہ/ ہ عن کا خیال سے ہٹانا کو سے ہٹانا۔ ــہ کو چلانا، کی سربراہی کرنا، کا انتظام کرنا، کا بندوبست کرنا، کا نظم و نسق کرنا، کا نگران ہونا، ــــ ہ/ان: پر غور کرنا، غور کرنا کہ، کو پھر سے سوچنا، پر نظر ثانی کرنا، کو ہر پہلو سے سوچنا، ہر پہلو سے سوچنا کہ۔ اَدَار بوجهه الی: کی طرف مڑنا، مڑ کر کی طرف دیکھنا، مڑ کر کی طرف دیکھنا۔ اَدَار راسهُ کا سر موڑنا، کو منوالینا، قائل کرنا، کو ہوش میں لانا، ادار الحدیث فی الموضوع کسی موضوع پر بحث کرنا، بحث چھیڑنا، گفتگو کسی موضوع کی طرف پھیرنا۔ تَدَوَّرَ گول ہونا یا ہوجانا، مُدَوَّر ہونا۔ اِسْتَدَارَ گول ہونا، گرد پھرنا، گرد گھومنا، گردش میں آنا، دور چلنا، چکر کاٹ کے آنا، چکر گھمانا، گھومنا،

گردش کرنا۔ ــالی کی طرف متوجہ ہونا، کا رخ کرنا، کے سامنے ہونا۔ ــحول کے گرد پھرنا، گھومنا، کے گرد چکر کاٹنا۔ ــ پیچھے دیکھنا، اپنا سر موڑنا۔

دار مونث جمع دُوْر و دیار و دِیارات و دِیرة مکان، عمارت، شاندار عمارت، رہائش، سکونت، رہنے کی جگہ، مسکن گھر، سرکاری قیام گاہ، نشست گاہ، پہلو، رخ، طرف، مقام، جگہ، علاقہ، ملک، (خصوصاً دیار) دارالآثار عجائب گھر، عجائب خانہ (خصوصاً آثار قدیمہ، اثریات کا) دارالبرید ڈاکخانہ دارالبقاء ابدی مسکن، اخروی زندگی، الدار الباقية اخروی زندگی، ابدی مسکن، تنقل للدار الباقية مرنا، فوت ہونا، الدار البیضاء کاسابلانکا مغربی مراکش کی بندرگاہ) وہائٹ ہاؤس (واشنگٹن میں) دارالتجارة تجارتی ادارہ۔ دارُ الحرب جنگی علاقہ، دشمن کا علاقہ، غیر مسلموں کے ممالک، دار الریاسة: صدر مملکت کی قیام گاہ۔ دار السعادة: قسطنطنیہ۔ دار السلطنة قسطنطنیہ۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل) دارالسلام، جنت، بہشت، بغداد، ٹانگانیکا کا دارالحکومت اور بندرگاہ۔ دُور السینما: سینما (جمع) دارُالشُرطة: تھانہ، پولیس سٹیشن۔ دار الصنعة یا دار الصناعة: اسلحہ خانہ، اسلحہ سازی کا کارخانہ، میگزین، دار صینی دارچینی۔ دار الضرب و دار السکة: ٹکسال، جہاں ملک کے سکے ڈھالے جاتے ہیں۔ الدیار العراقية: عراق (ملک)، دارُالعُلوم قاہرہ کے ایک کالج کا نام۔ دارُالفناء: دنیوی جہاں یہ دنیا۔ دار القضاء عدالت، خصوصی عدالت۔ دار الکتب: پبلک لائبریری۔ دُور اللهو: مراکز تفریح، نائٹ کلب (جمع) دار التمثیل: تھیٹر، تماشا گاہ۔ دار الملك (شاہی) رہائش گاہ۔ الدیار المِصْرِیَّة: مصر۔ دار الهِجرة: مدینہ شریف۔ دار الایتام: یتیم خانہ۔ دارة: جمع دارات: (چاند کا) ہالہ، دائرہ، دورہ، گشت، کوٹھی۔ دارِیّ: گھریلو، خانگی، دیسی، ملکی۔ دُوْرِیّ: پالتو (جانور)۔ عُصْفُوْرٌ دُوْرِیّ: گھریلو چڑیا یا پالتو چڑیا۔ دَوْر: جمع اَدْوار: (گشت کا) چکر، (کھیلوں کا) راؤنڈ، کردار، کام، کردار، جو کوئی شخص یا چیز ادا کرے، فلمی کردار، سٹیج پر کیا گیا کردار، وقتاً فوقتاً تبدیلی، باری باری، عرصہ، مدت، وقت، تبادل، فصلی گردش۔ (کسی کی) باری، دور، مرحلہ، قدم، درجہ، رتبہ، حیثیت، جگہ، مقام، دور، زمانہ، (بیماری کا) حملہ، دورہ یا اچانک غلبہ۔ منزل (عمارت کی) فلور (عمارت کا)، نغمہ نگاری، نغمہ گری، کسی پروگرام میں، اکیلا کام۔ دورٌ و تسلسل

استدلال دوری، استدلال کا چکر۔ دورٌ نهـائـی: آخری مقابلے۔ فیصلہ کن راؤنڈ۔ دورُ الانعقاد: اجلاس (پارلیمنٹ وغیرہ کا) الدور الاوّل یا دورُ البطولة: سب سے اہم کردار، ہیرو یا ہیروئن کا کردار۔ قامَ بدوْرِ یا لعِب دوراً: ایک کردار ادا کرنا۔ دورٌ ارضی: گراؤنڈ فلور، نچلی منزل۔ پہلی منزل۔ کان دوره: یہ اس کی باری تھی۔ الدور لَهُ: یہ اس کی باری ہے۔ (انا) بدوری: میں ذاتی طور پر جہاں تک میرا تعلق ہے۔ هو بدوره: وہ اپنی باری پر، اپنی طرف سے وہ ذاتی طور پر۔ بالدّور: باری باری، باری باری سے۔ دَوْرة جمع دَوْرات: چکر، گردش، محوری گردش، دوران، دور، دورہ، گشت، روح القدس کا ظہور، دورہ (فنکار وغیرہ کا) چکر یا پھیر۔ عرصہ، مدت، اجلاس (پارلیمنٹ کا)، نصاب (تعلیم کا) الدورة الدّمویّة: دوران خون۔ الدورة الحيوية: دوران ہوا۔ دورةُ احتیارِ (تخاوُر) الرُتبة: فوجی افسروں کا تربیتی کورس۔ دَوْرةٌ زراعيةٌ: فصلی گردش۔ دورةٌ تشريعية: قانون سازی کا عرصہ۔ دورة الفلك: اجرام سماویہ کی گردش۔ دورة التطافية: چکر کاٹ کر دشمن پر عقب سے حملہ آور ہونے کی عسکری حرکت۔ دورة مالیه: مالی مدت، مالیاتی سال۔ دورةُ الميِاه: غسل خانہ، طہارت خانہ، بیت الخلا، فلش کا طہارت خانہ۔

دَوْری: گشت کرنے والا، گشت کا، میعادی، فصلی، موسمی، گردشی، باقاعدہ اوقات میں واقع ہونے والا، بار بار واقع ہونے والا، باری کا، وقفہ وقفہ کا دورہ کرانے والا، گردش کے متعلق، دوری، حلقہ وار، (کھیلوں کا) سلسلہ۔ الجهازُ الدّوْریّ: نظام دوران خون۔ دَوْرية: جمع دوریات: گشت، گشتی پارٹی، دیکھ بھال کا دستہ دوریات الاستكشاف: دیکھ بھال کے دستے، گشتی دستے۔ داوریة: بمعنی دَوْرية۔ دَیْـر: جمع اَدْیار و اَدْیِرة و دُیُورة: خانقاہ، صومعہ، ڈیرا، دھرم سالہ، عیسائی راہباؤں کی خانقاہ، مذہبی عورتوں کے رہنے کی عمارت، تکیہ، حجرہ۔

دَیْرِیّ: خانقاہی، راہبانہ، تکیہ کا۔ دَیْـرة: علاقہ، ملک، وطن۔ دُوّار و دَوّار: دوران سر، چکر، بحری سفر کی بیماری۔ قے متلی۔ دَوّار: تیزی یا تسلسل سے گھومنے والا، چکر کھانے والا، گردش کرنے والا، ایک محور پر گھومنے والا۔ محوری، باری باری کا گول گول پھرنے والا، گشتی، دورہ کرنے والا، گرداب، بھنور، چکر، چلتا پھرتا ہوا، خانہ بدوش، سفری، دورہ کرنے والا۔ متحرک۔ بھٹکتے پھرنے والا۔ مارا مارا پھرنے والا۔

بـابٌ دَوّار: گھومنے والا دروازہ۔ بـائـعٌ دَوّار: پھیری والا، خوانچہ والا، ٹھیلے والا، بساطی، بساطی۔ جهازُ حفرٍ دَوّارٌ: سوراخ کرنے کی گھومنے والی مشین۔ دوار الشمس: سورج مکھی۔ دَیّار: خانقاہی، راہبانہ، راہب، درویش، زاہد، عابد، جوگی، تارک الدنیا۔ دَیْرانی: بمعنی دَیّار۔ دَوّارة: بھنور، گرداب، پرکار، دَوّارةُ الهواء: بادنما، سمت نما، مرغ بادنما۔ دِیاری: گھریلو، دیسی، ملکی، دَوَران: مڑنا، دور، گردش، چکر، محوری یا مداری گردش، دوران، دوری حرکت، گردش زمانہ، گشت، گول گول پھرنا، گھیر لینا، چکر لگانا، دورہ کرنا، گشت کرنا، دورہ، گشت، سیاحی یا سرکاری سفر۔ اَدْوَر عـلـی الاَلْسُن: جس کے بارے میں زیادہ بات چیت کی جائے۔ اکثر و بیشتر ظاہر کیا یا بحث کیا جانے والا۔

مَدار جمع مَدارات: اجرام فلکی کا مدار، گول گول پھرنا، چکر لگانا، چکر، دوران، گردش، دوری حرکت، محور، دھرا، فرضی خط جس پر کوئی چیز گردش کرتی ہے۔ دو نیم کرنے والا خط، چول مدار، اصل یا مرکزی نقطہ، دار و مدار، مرکزی بنیادی یا فیصلہ کن عنصر، مرکز، موضوع (بات چیت مذاکرات وغیرہ کا) موقع، گنجائش، حد، وسعت دسترس، زد، فاصلہ، سلسلہ کرہ، فلک، دائرہ، حلقہ، خط سرطان یا خط جدی، رخ ٹھیک رکھنے کا پہیہ Steering.wheel مدار السرطان: خط سرطان کا مدار۔ مدار الجَدی: خط جدی کا مدار، کـان مدارُہ علی: یہ (جھگڑا وغیرہ) کے بارے میں تھا۔ یہ پر منحصر تھا۔ علی مدارِ السَنة: تمام سال، سال بھر، تَـدْوِير: قرآن مجید کی درمیانی رفتار سے تلاوت (یہ تجوید کی ایک فنی اصطلاح ہے)۔ مُـداوَرة: جمع مُداوَرات: دھوکا دینا، فریب، جھوٹ، مکر، ریاکاری، دغا، ذہانت سے مغلوب کرنا، حکمت عملی سے حریف کو نیچا دکھانا، جھانسا، ٹال مٹول کی کوشش، نئی ترکیب، چالاکی، عیاری، جھکائی دیکر نکل جانا۔ روپوش ہونا، ترغیب، بہکانا، پھسلانا، دام میں گرفتار کرنا، چال میں پھانسنا۔ ادارة: موڑنا، واپس آنا، رجوع کرنا، الٹا کرنا، اوندھا کرنا، شروع کرنا، سٹارٹ کرنا، چلانا، عمل، عمدہ بندوبست، خوش انتظامی، انتظام، بندوبست، نظم و نسق، انتظامیہ، انتظامی ایجنسی، محکمہ، دفتر یا سرکاری محکمہ۔ ادارة الامن: پولیس۔ ادارة عُرفية: فوجی انتظامیہ، سوءُ الادارة: بدانتظامی، مجلسُ الادارة: مجلس ناظمین Board of directors مجلس انتظامیہ، انتظامی کمیٹی، مـركـز الادارة: مرکز انتظامیہ، صدر

دفتر، ہیڈ کوارٹر۔ اداری: انتظامی، محکمانہ، انتظامی افسر، منیجر (کھیلوں کا) اِداریـاً: انتظامی ذرائع سے سرکاری طور پر، منتظمانہ طور پر۔ استدارة: گولائی، چکر۔ دائـر: مڑنے والا، موڑنے والا، گھمانے والا، چکر دینے والا، گردش کرنے والا، چکر کھانے والا، دورہ کرنے والا، پھرنے والا، گشت کرنے والا، گشتی رواں، چلتا ہوا، جاری مروجہ (محاورہ) عام، متحرک، چلتا پھرتا ہوا، خانہ بدوش، سفری، دورہ کرنے والا، ہورہا، چل رہا۔ کام کرنے والا، چالو، (مشین، انجن) گول۔ دائـرة: جمع دوائر: دائرہ، حلقہ، محیط، گھیرا، گھیر، احاطہ، کرہ، فلک، دسترس، رسائی، گنجائش، موقع، امکان، میدان، مار، زد، فاصلہ، فرق، وسعت، رسائی، پہنچ، حد، دورہ، گشت، دور، شعبہ، سرکاری ایجنسی، محکمہ، دفتر، عدالت انصاف کا محکمہ، کمیت، فارم، جاگیر، مصیبت، آفت۔ في دائرة: کے ڈھانچہ میں۔ علی شكل نصف دائرة: نیم گول۔ نـقـطـة الدئرة: اہم عنصر، مواد، محور، فیصلہ کن نقطہ، شکل، معاملہ، اشکال۔ دائرة كهربائية: برقی سرکٹ۔ دائرة قصيرة: شارٹ سرکٹ۔ دائـرة الـمـعـارف: انسائیکلو پیڈیا۔ دوائـر الـحـكومة: سرکاری حلقے۔ الـدوائـر الرسمية (السياسية العكرية): سرکاری (سیاسی، فوجی) حلقے۔ دائرةُ الاختصاص دائرةُ اختیار۔ الدائرة السنية: سول فہرست۔ دائرة إستئنافية: عدالت اپیل۔ دائرة انتخابية: انتخابی حلقہ۔ دارت علیه الدّوائِر: مصائب جھیلنا، دائِری: گول، چھلے کی شکل کا، مُدوَّر: گول۔

مُـدِیر: سربراہ، چیف، ڈائریکٹر، ہیڈ، ناظم، مہتمم، ناظر، منیجر، سپرنٹنڈنٹ (یونیورسٹی کا) ریکٹر Rector حاکم، جمع مُدَراء: ضلع کا انتظامی افسر، مدیرُ الجوق: سنگت کا لیڈر، سازندوں کا مہتمم۔ مُدیرة: خاتون ڈائریکٹر، خاتون مہتمم۔ مُدیرية: انتظامیہ، نظم و نسق عمدہ بندوبست جمع مُدیریات: صوبہ، کسی وزارت کا بڑا محکمہ۔

مُسْتَدِیر: گول۔ مؤتمر المائدة المستدیرة: گول میز کانفرنس۔

○ دَوْرَق: جمع دَوارِق: شیشے کی صراحی۔

دوز: دَوْزَنَ القانون ونحوه: ستار و سارنگی وغیرہ کے تار کسنا (فارسی لفظ ہے اس کا ہم معنی عرب لفظ: بعض وبعض ہے الدوزان دَوْزَنَ سے اسم (مو) موسیقی کے آلات کسنے کا آوزار۔

○ دَوْزَن: موسیقی کے آلہ کے سُر ٹھیک کرنا۔ ریڈیو پر

(کوئی جگہ) لگانا۔ دَوْزَان و دوزنة: کسی آلہ موسیقی کے سر ٹھیک کرنا۔ دَوْزَنَة ریڈیو پر (کوئی جگہ) لگانا (پروگرام سننے کیلئے)۔

دَوْرِیْنَة: درجن۔

داس ۱- دَاسَ ـُدَوْسًا و دِیاسًا و دِیاسَةً الشیءَ: کو پاؤں سے روندنا، ذلیل کرنا۔ ـــ وَاَدَاسَ الزرعَ: فصل کو گاہنا۔ دَاوَسَ القومُ بعضُهم بعضًا فی القتال لڑائی میں ایک دوسرے کو پاؤں سے روندنا، پامال کرنا۔ اِنْدَاسَ الشیءُ: روندا جانا۔ ـــ فلانٌ ذلیل کیا جانا۔ الدِیسَة: جمع دِیَس و دِیْس گھنا جنگل۔ المِدْوَس و المِدْوَاس جمع مَدَاوِس: روندنے کا آلہ۔ المَدَاس جوتا، سلیپر۔ المَدَاسَة کھلیان۔ الدَوَّاس بہادر، شیر۔ الدَوَّاسَة (حی) لکڑی جسے جولاہا کرگہ کے نیچے رکھتا ہے تاکہ دھاگے پھول جائیں۔ پیڈل

۲- دَاسَ ـُدَوْسًا و دیاسًا و دیاسَةَ السیفَ: تلوار صیقل کرنا۔ انداس السیفُ: تلوار صیقل ہونا۔ المِدْوَس و المِدْوَاس جمع مَدَاوِس. پالش کرنے کا آلہ۔

۳- الدُوَاسة و الدَوِیسَة: جماعت، گروہ۔ الدَوَّاسة ناک۔

○ دَاسَ ـُدَوْسًا و دیاسًا ه: پر قدم رکھنا، چلنا، کو روندنا، کچلنا، پامال کرنا۔ (فصل) گاہنا۔ ـــ ه: کو ذلیل کرنا۔ ـــ ه: (بس وغیرہ کا) کسی کو نیچے لے لینا۔ اِنْدَاس: روندا جانا، کچلا جانا، پامال ہونا، گاہا جانا، ذلیل ہونا، (گاڑی کے) نیچے آ جانا۔ دوس: روندنا، کچلنا، قدم۔ دِیْسَة: گھنا جنگل، جنگل، درختوں کا جھنڈ، گنجان جھاڑیاں۔ دَوَّاسة: پیڈل۔ مَداسٌ: جوتا سینڈل۔ مَدُوس و مُداس: روندا ہوا، کچلا ہوا، کچلا ہوا، (گاڑی کے) نیچے آیا ہوا۔

○ دُوسِنْطَارِیَة و دوسنطاریا و دوسنتاریا: پیچش۔ آنو اور لہو کے دست۔

○ دُوسِیة و دوسیة: جمع دوسیات: فائل (File)۔

دوش: دَوِشَ ـَدَوَشًا عینُهُ: بیماری سے کی آنکھ خراب ہونا۔ صفت۔ اَدْوَشُ مونث دَوْشاء جمع دُوش۔

○ دَوَّشَ ه: کو پریشان کرنا، شور سے مخبوط کر دینا۔ دَوْشَة: غل، شور و غل، غل غپاڑہ، ہنگامہ، چیخ و پکار۔

○ دُوْش: جمع دُوشات: بوچھاڑ، فوارے کے نیچے غسل، پانی کی پچکاری۔

○ دَوْطَة: جمیز۔

داغ: دَاغَ ـُدَوْغًا القومُ: قوم میں بیماری کا پھیل جانا۔ الطعامُ: غلہ کا ارزاں ہونا۔ ـــ ہ الحرُّ: گرمی کا کسی کا حلیہ بگاڑ دینا۔ الدَوْغَة: حماقت، سردی۔

○ دَوَّغَ: داغنا، پکا نشان لگانا۔ داغ: جمع داغات داغ (جانوروں پر لگایا جانے والا)

داف: دَافَ ـُدَوْفًا و اَدَافَ الدواءَ و نحوه: دوا وغیرہ کو ملانا، پانی میں پگھلا کر گاڑھا کرنے کیلئے حرکت دینا صفت: مَدُوفٌ و مَدْوُوفٌ و دائفٌ۔

○ دَافَ ـُدَوْفًاه فی: کو سے میں ملانا، مخلوط کرنا کو میں جمع کرنا، کی میں آمیزش کرنا۔

داق: دَاقَ ـُدَوْقًا دُوُوقًا و دُوُوقَةً و دَوَاقَةً: دبلا و لاغر ہونا۔ بیوقوف ہونا۔ صفت دائق ـــ الطعامَ: کھانا چکھنا۔ اَدَاقَ القومُ بہ: لوگوں کا کسی کو گھیر لینا۔ اِنْدَاقَ اِنْدِیاقًا بطنُهُ: کا پیٹ پھولنا۔ الدُوق حماقت۔ بیوقوفی۔ (مونث دُوقَة) ڈیوک، نواب، مونث نواب بیگم۔ الدُوقَة و الدوقانیة: حماقت، خرابی، فساد۔

○ دُوق: نواب۔ دُوقَة: نواب بیگم دُوقِیـ: نوابی، ڈیوک کا۔ دُوقِیة: نواب کا علاقہ، جاگیر، نوابی، نوابی ریاست۔

داک: ۱- دَاکَ ـُدَوْکًا و مَدَاکًا القومُ: بیمار ہونا، مضطرب ہونا۔ تَدَاوَکَ القومُ: لڑائی یا فساد میں ایک دوسرے کو تنگ کرنا۔ الدُوکَة و الدَوْکَة: جھگڑا، شر، فساد۔

۲- دَاکَ ـُدَوْکًا و مَدَاکًا الشیءَ: کو کوٹنا، رگڑنا، پیسنا۔ المِدْوَک و المَدَاک: پیسنے یا رگڑنے کا پتھر۔

○ دَوَّکَ: بک بک کرنا، چیز چیز باتیں کرنا، بچوں کی سی باتیں کرنا۔ دَوْکَة: غل، شور و غل، غل غپاڑہ، شور و غوغا، ہنگامہ، دھینگا مشتی، ہلچل، افراتفری، شورش، بلوہ، دنگا، بے چینی، اضطراب، الجھن، ابتری۔

دول: ۱- دَالَ ـُدَوْلَةً الزمانُ: زمانہ کا ایک حال سے دوسرے میں بدلنا۔ کہا جاتا ہے۔ دالت له الدولةُ: اس کے لئے مال و دولت الٹ گیا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ ـــ الرجلُ فی مشیه: چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔ دَاوَلَ مُدَاوَلَةً اللہ الایامَ بین الناس: اللہ تعالیٰ کا زمانہ کو لوگوں کے درمیان اول بدل کرانا۔ یعنی اگر ایک زمانہ آج ایک کے لئے ہے تو کل دوسرے کے لئے ہو جائے۔ ـــ الماشیُ بین قدمیه: کبھی ایک قدم پر آرام لینا کبھی دوسرے پر۔ اَدَالَ اِدالَةَ الشیءَ: باری باری سے ایک کے بعد دوسرے کو دینا۔ ـــ اللہ بنی فلان من عدوهم اللہ: اللہ تعالیٰ کا فلاں قبیلہ کو اس کے دشمن پر غلبہ دلانا اور فتح مندی نصیب کرنا۔ [illegible] کا زید سے دولت لے کر عمرو کو دے دینا۔ تداولت ہ الایدی: کو باری باری سے لینا۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ تداولوا الشیءَ بینهم انہوں نے چیز کو باری باری سے لیا۔ اِنْدَالَ القومُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اِسْتَدَالَ الایامَ: زمانہ کو اپنے موافق کر لینا۔ الدَوْلَةُ (مص) جمع دِوَل و دُوَل وہ چیز جو لوگوں کے پاس بدل کر آتی ہے۔ اس لئے اس کا اطلاق مال و غلبہ پر ہوتا ہے اور عام طور پر ریاست یا ملک پر۔ (چنانچہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے۔ دولةُ لبنان لبنان کا ملک۔ الدُوَل العربیة: عرب ریاستیں، عرب ممالک) حکومتی اجنبی یا عہد دار۔ (کہا جاتا ہے: کانت لنا علیهم الدولة ہم کو ان پر غلبہ نصیب ہوا۔ لکلِ زمانٍ دولةٌ و رجالٌ ہر زمانہ کے لئے ایک ریاست اور بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں۔ الدهرُ دُوَلٌ: زمانہ کو ایک حال پر قرار نہیں بلکہ اول بدل کرتا رہتا ہے۔ صاحب الدولة: وزیر اعظم کا لقب۔ الدُوْلَة: باری باری ایک دوسرے کے پاس جانے والی چیز لہٰذا اس کا اطلاق مال اور غلبہ پر ہوتا ہے۔ الدُوْلَة: جمع دُوْلات: مصیبت۔ الاِدالَة: غلبہ۔ دَوَالَیْك: ایک کے بعد ایک۔ یعنی کام کو یکے بعد دیگرے کرو۔ مقصود تاکید ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ فعلنا ذلک دَوَالَیْك: ہم نے اس کو باری باری سے کیا۔

۲- دَالَ ـُدَوْلاً بطنُهُ: کے پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔ اِنْدَالَ بطنُهُ: کے پیٹ کا بڑا ہو کر زمین کی طرف لٹکنا۔ ـــ مافی بطنه: کے پیٹ کی چیز کا نکلنا ـــ الشیءُ: چیز کا لٹکنا۔

۳- دَالَ ـَدَالَةً و دَوْلاً: مشہور ہونا۔ الدَالَة: شہرت۔

○ دَالَ ـُدَوْلَةً: وقتاً فوقتاً بدلنا، باری باری کرنا، باری باری ہونا یا ہونے دینا، گردش کرنا، باری باری، آنا (وقت، دولت کا) بدلنا، پلٹنا۔ دالت دولة الاستبداد مطلق العنانی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ دالت له الدولة: غلبہ اس کے حق میں ہو گیا۔ دالت علیه الدولة: غلبہ اس کے خلاف ہو گیا۔ دَاوَلَ ه/ه: کو باری باری لانا، گردش دینا۔ ـــ الایامَ: دنوں کو ایک دوسرے کے بعد لانا۔ (اللہ تعالیٰ کا) ـــ بین: کے مابین باری باری ہونے دینا۔ ـــ ہ فی: سے کے بارے میں گفتگو کرنا۔ سے پر بات چیت کرنا، مباحثہ کرنا۔ اَدَالَ ہ من: کو پر برتری دینا، غلبہ دینا، عروج دینا۔ ـــ ہ علی: کو پر فتح مند بنانا، فتح دینا۔ ـــ ہ ب/من: کو کا قائم مقام بنانا، کو کی جگہ رکھنا کو سے بدلنا، ادلا بدل کرنا۔ اُدِیلَ لبنی العباس من بنی امیة: حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں سے نکل

کر بنوعباس کے پاس چلی گئی۔ تداول ہ سے اول بدکرنا، کا باری باری واقع ہونا، ایک دوسرے کے بعد لانا۔ ایک دوسرے کو کچھ دینا۔ کے درمیان کوئی چیز باری باری منتقل کرنا۔ ـــ ہ مختلف چیزوں سے باری باری نبٹنا، مختلف چیزیں باری باری سے ہاتھ میں لینا، کبھی یہ کبھی وہ لینا، پر یکے بعد دیگرے بحث کرنا، ـ سوچ بچار کرنا، مذاکرات کرنا، بات چیت کرنا۔ ـ الرای تبادلہ خیالات کرنا، کو اکثر استعمال کرنا۔ ـــ گردش کرنا، گردش میں ہونا، چالو ہونا، رائج ہونا، رائج الوقت ہونا، مروجہ ہونا، عام استعمال میں ہونا۔ تداولتہ الایدی ایک سے دوسرے ہاتھ تک پہنچنا، گردش کرنا، پھیلنا ــ تداولتہ الالسن ایک منہ سے نکل کر دوسرے تک پہنچنا، کا شہر میں چرچا ہونا، ہر ایک کے لب پر ہونا۔ دولہ جمع دول تبادل، ہیرا پھیری، اول بدل دور، گردش، چکر، تبدیلی۔ وقت کی تبدیلی، قسمت کا پلٹنا، مال و دولت کا انقلاب، شاہی گھرانہ، ریاست، ملک، طاقت، حکومت، فرمانروائی، قلمرو، صاحبُ الدولہ وزیراعظم کا لقب۔ دولہ رئیس الحکومۃ فضیلت مآب وزیراعظم۔ فخامۃ الدولۃ صدر کا لقب۔ الدولۃُ العَلیۃ قدیم عثمانی قلمرو، الدول الکُبریٰ او العظمیٰ بڑی طاقتیں۔ دولۃ مُنتدبۃ انتدابی طاقت۔ دَوْلۃ = رَکْوۃ (کافی بنانے کا دھات کا برتن جس کا دستہ لمبا اور بڑا ہوا ہوتا ہے۔) دَوْلی ریاست کا۔ دُوَلی بین الاقوامی۔ دُوَلیّۃ بین الاقوامیت، بین الاقوامی اتحاد۔ دو یا زیادہ ممالک کی ٹیموں کا مقابلہ۔ دُوَیلات چھوٹی ریاستیں، چھوٹے ملک۔ دَوَالَیْکَ باری باری سے، باری باری، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ایک ایک کرکے، پے در پے۔ وھکذا دَوَالَیْکَ وغیرہ وغیرہ، الخ، وقس علی ھذا۔ تَدْوِیل کسی چیز کو کئی قوموں کی حفاظت یا مشترکہ کنٹرول میں لانا، بین الاقوامی بنانا، مُداوَلَۃ جمع مُداوَلات گفت وشنید، مذاکرات، بات چیت، تبادلہ خیال، گفتگو، غور و فکر، سوچ بچار، بحث مباحثہ، صلاح مشورہ، مشاورت، مذاکرات، مباحثہ، مُداوَلۃً اپنی اپنی باری سے، ایک کے بعد دوسرا، ایک ایک کرکے، باری باری سے، ایک وقت میں ایک۔ تَداوُل اول بدل، ہیرا پھیری، گردش، دوران اشاعت، چالو، مروجہ یا رائج الوقت ہونا، عام استعمال، سرمایہ کی گردش۔ بالتداول اپنی اپنی باری سے ایک کے بعد دوسرا، ایک ایک کرکے۔ ایک وقت میں ایک، باری باری۔ مُتَداوَل رائج، رائج الوقت۔ چالو، مروجہ، عام استعمال میں، اشاعت پذیر، گردش، ضابطہ کے مطابق، عام۔ الکلامُ المتداول عام بول چال کی زبان، روزمرہ بول چال کی زبان۔

دام ۱۔ دَامَ دَوْمًا و دَوَامًا و دَیمُومَۃً ثابت رہنا، دراز مدت تک رہنا، جاری رہنا۔ ـ الشیءُ ٹھہرنا، ـ ت السماءُ آسمان کا لگاتار بارش برسانا۔ یہ قول۔ ـ دِمتَ تَدوم ماضی میں عین کے کسرہ سے اور اس کے ضمہ سے مضارع میں شاذ ہے۔ مادام افعال ناقصہ میں ہے جیسے: لا یجری الاصلاح مادام فلان حاکماً جب تک فلاں شخص حاکم ہے۔ اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں۔ دَوَّمَ تَدْوِیماً تِ السماءُ آسمان کا لگاتار بارش برسانا۔ ـ القِدرَ ٹھنڈا پانی چھڑک کر ہانڈی کے جوش کو ٹھنڈا کرنا۔ ـــ الشیءَ کو تر کرتے رہنا۔ دَیَّمَتِ السماءُ آسمان کا لگاتار برسنا۔ دَاوَمَ الشیءَ کی ہمیشگی طلب کرنا، کو مہلت سے کرنا۔ ـــ علی الامر پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ اَدَامَ اِدَامَۃً الشیءَ کو ہمیشہ رکھنا ـــ القِدرَ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی چھڑک کر ہانڈی کا جوش ٹھنڈا کرنا۔ ـ الامرَ کی مداومت کرنا۔ ـــ ت السماءُ آسمان کا لگاتار برسنا۔ تَدَوَّمَ انتظار کرنا۔ اِسْتَدَامَ اِسْتِدَامَۃً الشیءَ کی ہمیشگی طلب کرنا، کو مہلت دینا۔ الدَّوْم (مص): ہمیشہ رہنے والا۔ الدائم (فا) اللہ تعالیٰ۔ ھو یزورنا دائماً وہ ہر وقت ہمارے پاس آتا رہتا ہے۔ ماءٌ دائِمٌ ٹھہرا ہوا یا کھڑا پانی۔ الدِیمَۃ جمع دِیَمٌ و دُیُومٌ جم کر برسنے والی بارش، جس میں بجلی اور گرج نہ ہو، کہا جاتا ہے۔ مطر تھم السماءُ بدیمۃٍ و بدِیَمٍ ان پر آسمان بارش برستا رہا جس کے دوران گرج چمک نہیں ہوئی۔ الدَّیُّوم: دائم، ہمیشہ۔ المِدْوَم و المِدْوَام: ڈوئی یا کفگیر جس سے ہانڈی کا جوش بٹھایا جاتا ہے۔ المُدام: مسلسل بارش۔ ـــ والمُدامۃ: شراب۔ المُدِیم جس کی ناک سے خون جاری ہو۔ المَدِیم جہاں مسلسل بارش ہو کہا جاتا ہے۔ مکانٌ مدیمٌ وارضٌ مَدِیمۃ مسلسل بارش والی جگہ اور زمین۔ الدَّأْماء: سمندر۔

۲۔ دَامَ دَوْمًا و دَوَامًا و دَیمومۃً الشیءُ: گھومنا۔ دِیمَ و اُدِیمَ بہ کا سر چکرانا۔ دَوَّمَ تَدْوِیماً الطائرُ پرندہ کا ہوا میں اڑنا، چکر لگانا۔ ـ ت الشمسُ سورج کا وسط آسمان میں گھومنا۔ ـ تِ الخمرُ شاربھا شراب کا شرابی کے سر کو چکرا دینا۔ ـ العمامۃَ پگڑی سر کے گرد لپیٹنا۔ ـ تْ عینہ کی آنکھ کا حلقہ میں پھرنا۔ ـ الزعفران فی الماءِ: زعفران کو پانی میں رگڑ کر گھسنا۔ ـ بالدُّوَّامَۃِ لٹو سے کھیلنا۔ اِسْتَدَامَ اِسْتِدَامَۃً الطائرُ پرندے کا ہوا میں اڑنا، چکر لگانا۔ ـ الدُّوَام دوران سر۔ الدَّوَمان پرندہ کا منڈلانا۔ الدُّوَّامۃ جمع دُوَّام لٹو۔

۳۔ دَامَ دَوْمًا و دَوَامًا و دَیمُومَۃً تِ الدلوُ: ڈول کا بھرنا۔ اَدَامَ اِدَامَۃً الدلوَ ڈول کو بھرنا۔

۴۔ اِسْتَدَامَ استدامۃً غریمَہُ اپنے قرض خواہ سے نرمی کرنا۔

۵۔ الدَّوْم (ن) کھجور سے مشابہ ایک درخت، بڑے بڑے درخت۔ الدَّامَا مہرہ بازی۔ الدَیِّم ایک قسم کا کپڑا۔

ج دَامَ دَوْمًا و دوامًا قائم رہنا، باقی رہنا، زندہ رہنا، برقرار رہنا، جاری رہنا، پائدار یا دیرپا ہونا (کرتے) رہنا، ثابت قدم رہنا۔ مادامَ جب تک چونکہ کیونکہ، جب کہ، مادام حَیًّا جب تک وہ زندہ ہے۔ مادمتُ مَعَکَ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، جب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دَوَّمَ: دائرہ میں گھومنا، گھومنا، مڑنا، چکر کھانا، گردش کرنا۔ ـــ ہ: کو گھمانا، چکر دینا، کو دوسوتی بنانا، تانا، کاتنا۔ دَاوَمَ علی: پر ثابت قدم رہنا، جما رہنا۔ ڈٹا رہنا، قائم رہنا، کو تن دہی، مستعدی یا ثابت قدمی، سے کرنا۔ کو ثابت قدمی یا محنت سے کرتے رہنا۔ ـ جاری رہنا۔ اَدَامَ ہ: کو قائم رکھنا، باقی رکھنا، برقرار رکھنا، مستقل بنانا۔ اِسْتَدَامَ ہ: کو جاری رکھنا، قائم رکھنا، باقی رکھنا، برقرار رکھنا، کو کرتے رہنا، پر جمے رہنا۔ دَوْم: جاری رہنا، مستقل ہونا، پائداری، مدت، دوران۔ دَوْمًا: ہمیشہ، ہر وقت، ہمہ وقت، ہمیشہ کیلئے۔ دِیمَۃ: جمع دِیَم و دُیُوم: مسلسل بارش۔

دَوَام مدت، دوران، تسلسل، استمرار، دوام، ہمیشگی، مداومت، بقا، ثبات، تواتر، پائیداری، قیام، ثابت قدمی، استقلال، ـ علی: (کسی کا) (کسی جگہ) قیام۔ دَوَامًا و علی الدَّوَام: ثابت قدمی سے، استقلال سے، دوامی طور پر، ہمیشہ، دائمی طور پر، ہمہ وقت، ہر وقت۔ ساعاتُ الدَّوَام، اوقاتُ الدوام، وقت الدوام: کام کے اوقات، دفتر کے اوقات۔ دَیْمُومَۃ بمعنی دَوَام دُوَّامَۃ لٹو (بچوں کے کھیلنے کا) گرداب، بھنور، راس (مثلث کا) مُداوَمۃ: استقلال، ثابت قدمی۔ پائیداری۔ استمرار، قیام، تسلسل۔ دوام، ہمیشگی، مدت، زمانہ، عرصہ، میعاد، اجرا۔ دائِم پائدار، دائمی، دیرپا، مستقل، ازلی، ابدی، غیر محدود، لامتناہی، لا انتہا، ہمیشہ رہنے والا، قائم و دائم، لازوال، جاوید، غیر فانی،

دائی، دوامی، استمراری، متواتر، مسلسل، لازوال، ابدی، سال بھر چلنے والا، لگاتار، پے در پے، جاری، برقرار، غیر منقطع پیہم، بلاناغہ، ثابت قدم، راسخ، مستقل، قائم، برقرار۔ دائمُ التقدم و النمو متواتر ترقی اور بالیدگی کی حالت میں۔ دائماً ہمیشہ۔ دائمًا ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ دائمی بمعنی دائم۔ مُدام شراب۔ مُستدیم مستقل، ثابت قدم، متواتر، دوراں، جاری، دائمی، دوامی، برابر جاری، مسلسل، لگاتار، مدامی، پیہم، پے در پے، برابر، بلاناغہ، بلاتوقف۔

۞ دُومان پتوار، دُومانجی پتوار چلانے والا، سکان گیر۔

داں ا۔ دَانَ-دُوْنًا کمزور ہونا، خسیس ہونا۔ اُدِیْنَ کمزور ہونا، خسیس ہونا۔ الدُّوْن حقیر نچلے درجے کا خسیس۔ کہا جاتا ہے۔ شیءٌ دُوْنٌ حقیر گھٹیا چیز۔ کبھی شریف کے معنی بھی دیتا ہے۔ دُوْن کے نیچے۔ کہا جاتا ہے۔ ھو دُوْنَہٗ وہ اس سے درجہ میں پست ہے۔ دُوَین دُوْن کی تصغیر۔

۲۔ دَوَّنَ الدیوانَ: دیوان کی تصنیف کرنا۔ رجسٹر بنانا۔ ـہٗ کا نام رجسٹر میں لکھنا۔ الدِیْوَان و الدَّیْوَان: جمع دَوَاوِین و دَیَاوِین کتابوں کا مجموعہ، شعروں کا دیوان، فوجی سپاہیوں اور وظیفہ خواروں کا رجسٹر، کچہری، کونسل۔

۳۔ تَدَوَّنَ مال دار ہونا۔

۴۔ دُونَكَ اسم فعل بمعنی خذ (لے، پکڑ) کہا جاتا ہے۔ دُونَكَ زیداً زید کو پکڑ۔ دُوْنَ: کے علاوہ کے بغیر (مِن دُوْنِ اَنْ یَفْعَلَ بغیر اس کے کہ وہ ایسا کرے) آگے۔ کہا جاتا ہے۔ مَشیٰ دُوْنَہٗ وہ اس کے آگے چلا۔ اور کہا جاتا ہے۔ حَالَ القومُ دُوْنَ فلان لوگ اس کے اور اس کے مطلوب کے درمیان حائل ہو گئے۔

۞ دَوَّنَ ہٗ : کو قلمبند کرنا، ضبط تحریر میں لانا، کو محفوظ کر لینا، لکھ لینا، کا اندراج کرنا، (اشعار) جمع کرنا، دَوَّنَ شرطاً: صاف صاف شرط لگانا۔ تَدَوَّنَ: ریکارڈ پر آجانا لکھا جانا، قلمبند ہونا۔ دِیْوَان جمع دَوَاوِین۔ خزانہ کا بہی کھاتہ۔ (قدیم اسلامی انتظامیہ کے دوران) دیوان (اشعار کا جو کسی ایک مصنف نے لکھا ہوا) سرکاری دفتر، انتظامیہ کا دفتر۔ دیوان وزارت، سفارت خانے یا چانسلر کا دفتر، سیکرٹریٹ، لاٹ صاحب کا دفتر۔ ملک کی کونسل، کابینہ، وزارت، کونسل، مشاورتی اسمبلی، مشیروں کی کونسل یا کمیٹی، مجلس عاملہ حکومت، عدالت انصاف، خصوصی عدالت، ہال، دیوان و نرم اور نیچا صوفہ۔ (ریلوے ٹرین کا) ڈبہ، کمرہ۔ لغةُ الدواوین دفتری بولی، دفتری اصطلاحات۔ دیوانُ التفتیش عدالتی یا سرکاری تحقیقات۔ دیوانی انتظامی سرکاری، عثمانی طرز کا خط۔ تدوین ریکارڈ کرنا لکھنا، اندراج، فہرست بنانا، رجسٹر کرنا، رجسٹری کرنا، اندراج کرنا۔ مُدَوَّنَة جمع مُدَوَّنات ریکارڈ، نوٹ، اندراج، قوانین کا مجموعہ جمع مُدَوَّنَات۔ تصنیفات (کسی دیے گئے موضوع پر) کتابیں۔ دُوْن حقیر، ذلیل، کمینہ، برا، غریب، ادنی، گھٹیا، کم رتبہ، ناکافی، ناقص۔ عَامَلَہٗ بالدُّوْن اس نے بے اتفاقی سے اس کی تحقیر کی۔ دُوْنَ نیچے (رتبہ، قیمت وغیرہ میں) کی یہ جانب، کے بغیر، آگے، بغیر سے زیادہ، کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ کسی طرح بھی نہیں، دُوْنَ ذلك کی طرف جاتے ہوئے، وہاں ہے اس کو انجام دینے سے قبل، لازمی ہے کہ۔ دُوْنَ ذلك خَرطُ القَتَاد اس سے قبل کہ کوئی وہ کام کرے، اسے ناممکن کو ممکن بنانا ہوگا۔ مِن دون، بدون کے بغیر، کے سوائے۔ بدون ان اور من دون أن: کے بغیر

دُونَكَ اسے لے لو۔ ہ کا انتظار کرنا، سے بچنا، ھُوَ دُوْنَہٗ وہ اس کے نیچے ہے، وہ اس کے معیار کا نہیں۔ کان دونه اهمیةً: سے کم اہمیت کا ہونا۔ اِثمٌ دُوْنَہٗ کلُّ اِثم: ایک ایسا گناہ جس کے سامنے تمام گناہ ہیچ ہیں۔ الذین هم دُوْنَ ایسنّ العسکریة فوجی خدمت کے لئے مقرر عمر سے کم عمر والے، دُوْنَ مانظرِ الی: سے قطع نظر، دُوْنَ مافائدةٍ کسی نفع کے بغیر، کسی بھی فائدے کے بغیر، مکمل طور پر ناکارہ۔ تَخْشَی ان یَسْعَدْنَ دونها: اسے خدشہ ہے کہ وہ عورتیں اس سے زیادہ خوش ہوں گی۔ تلك الكتبُ دونَ غیرها صرف وہ کتابیں اور کوئی کتابیں نہیں۔ انا متعجب مِن فضلِكَ دُوْنَ عِلمِكَ میں تمہاری اخلاقی خوبی کا تو مداح ہوں لیکن تمہارے علم و معرفت کا نہیں یا میں تمہاری نیکی کو تمہارے علم سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کَمَّ الاَفْوَاهَ دُوْنَ التَذَمُّرِ والشَّکْوَی اس نے ان کے منہ بند کر دیے۔ ان کو بڑبڑانے اور شکایت کرنے سے روکنے کے لئے۔ اِذا کانَ الغُصْنُ دُوْنَ ما یَحْتَمِلُہٗ: اگر شاخ اسے اٹھانے کی کافی قوت نہیں رکھتی۔ وصل دونهم الی الغایة یہ وہ تھا، نہ کہ وہ لوگ، جو ہدف تک پہنچا۔ اَشَاحَتْ بوجهها دُوْنَہٗ اس نے اپنا منہ پھیر لیا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ حَالَ دُوْنَ الشیء کو نہ ہونے دینا، میں حائل ہونا۔ الأشعة دون الحمر [illegible]

ماورائے احمر شعاعیں، تحت احمر شعاعیں۔ الموجات دُوْن القصیرة الٹراشارٹ ویوز (Ultrashort waves) (دس میٹر سے کم لہر کی لمبائی)

۞ دُوْنَم مربعہ پیمانہ، تقریباً 900 میٹر۔

داہ داہَ-دَوْهًا حیران ہونا۔ تَدَوَّہَ الشیءُ کسی چیز کا متغیر ہونا۔ الامرَ کسی کام میں لگ جانا۔

دوو دَوَّی صحراء میں چلنا۔ الدَّوّ و الدَّوِّیَّة صحراء۔

دوی ا۔ دَوِیَ-دَوًی بیمار ہونا۔ ـــ صدرُہٗ کے سینہ میں کینہ رہنا۔ داوَی مُداواةً المریض بیمار کا علاج کرنا۔ اَدْوَی اِدْوَاءً بیمار کے ساتھ رہنا۔ ہ کو بیمار کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ فلانٌ یُدْوِی و یُداوِی فلاں شخص بیمار بھی کرتا ہے اور علاج بھی کرتا ہے۔ تداوَی خود اپنا علاج کرنا۔ الدَّوَی بیمار۔ اپنی جگہ پڑا رہنے والا۔ کہا جاتا ہے۔ رجلٌ دَوًی و رجالٌ دَوًی ونساءٌ دَوًی (مصدر ہونے کی وجہ سے یہ واحد جمع مذکر مونث میں ایک ہی طرح آتا ہے۔ الدَّوِی مریض اپنی جگہ پر جم جانے والا، خراب پیٹ والا۔ مکانٌ دَوِیٌّ ناموافق صحت والی جگہ۔ الدَّوَاء والدُّوَاء والدِّواء جمع اَدْوِیَة: دوا۔ اسی سے ضرب المثل ہے۔ لِکُلِّ داءٍ دَوَاءٌ: ہر بیماری کی دوا ہے۔

۲۔ دَوَی-دَوِیًّا کی جھنجھناہٹ سنائی دینا۔ دَوَّی تَدْوِیَةً السحابُ بادل کا گرجنا۔ ـــ الصوتُ آواز کی گنگناہٹ سنائی دینا۔ الدَّوِیّ آواز بعض کے نزدیک خاص بادل کی گرج۔ کہا جاتا ہے۔ مافی الدار دَوِیٌّ و دُوِیٌّ و دَوِیٌّ گھر میں کوئی نہیں۔

۳۔ دَوَّی تَدْوِیَةً اللبنُ دودھ پر باریک سی جھلی آنا۔ الدُّوَایَة والدِّوایَة بالائی، جھلی، پپڑی۔

۴۔ الدَّوَی احمق، بے وقوف۔ الدَّوِی احمق، بے وقوف۔ الدَّوَاة جمع دَوًی و دُوِیّ و دِوِیّ و دَوَیات۔ دوات۔

۞ دَوِی و دَوَّی آواز دینا، بجنا، گونجنا، آواز پیدا کرنا، جھنجھنانا، داوَی ہ (مریض) کا علاج کرنا۔ ـــ ہ (بیماری) کا علاج کرنا۔ تداوَی خود آپ اپنا علاج کرنا، صحت یاب ہونا۔ دَوًی جمع اَدْواء بیماری، دَوِیّ آواز، شور، گھنٹی کی آواز، بھن بھن، کھنکھناہٹ، گرج، دھاڑ، زور سے کہنا، گھن گھن (بجلی کی) کڑک، جھنجھناہٹ، گونج، صدائے بازگشت، بازار تعاش۔

دَوائی دوائی دار، دوا سے متعلق، ادویاتی، طبی، شفا بخش۔

دِواء علاج، مُداواة علاج۔

تَداوٍ معالجہ، دوا، صحت، شفا۔

۞ دُوی (بلب کا) ساکٹ۔

○ دِیَالَوج : جمع دیالوجات. ڈائلاگ، مکالمہ۔
○ دیباج و دیباجة. ریشم، کمخواب، زربت دیبا۔
○ دَیُّوت دلال، بھڑوا، کٹنا، چہکنے یا گانے والے پرندہ کی ایک قسم۔
○ دَیْجور تاریکی، تاریک۔
○ دیسمبر دسمبر December
داث داثَ دَیْثًا نرم وآسان ہونا۔ دَیَّثَ هُ کو ذلیل کرنا۔ ـهُ الدهرُ زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنانا۔ طریقٌ مُدَیَّث روندا ہوا راستہ۔
داح داحَ دَیْحًا و دَیَحانًا تھوڑا چلنا۔
داخ داخَ دَیْخًا ذلیل ہونا۔ دَیَّخَ هُ کو ذلیل کرنا۔
دید ۱۔ الدَیْدن و الدَیْدان عادت۔
۲۔ الدیدبان محافظ سنتری، فوجی، پہریدار۔ محافظ دستہ۔
دیر الدیر جمع اَدْیِرَة و دُیُورَة راہبوں اور راہبات کے قیام کی جگہ۔ دَیْرانی دیر کام دیر کے متعلق،
الدیّار دیر والا، دیر میں رہنے والا۔
○ دیر دیکھو دور۔
داص ۱۔ داصَ دَیْصًا دَیَصانًا تیز ھا ہونا۔ ـت الغُدَّةُ بین الجلد و اللحم غدود کا جلد اور گوشت کے درمیان سرکنا پھسلنا اسی طرح ہر وہ چیز جو تمہارے ہاتھ کے نیچے متحرک ہو اور سرکے، پھسلے۔ ـدَیْصًا و دَیَصانًا عن الطریق راستہ سے ایک طرف ہونا۔ ـدیصًا لڑائی سے بھاگنا، جنگ سے فرار ہونا، کمینہ ہونا۔ اِنْداصَ ہاتھ سے پھسلنا۔ الدائص جمع داصَة: چور المَدَاص پانی میں غوطہ لگانے کی جگہ۔ الدیّاص: سخت پٹھوں والا۔
۲۔ اِنْدَاص بالشر علی فلان: کسی پر اچانک شر وبلا کی لانا۔
داق: داقَ-دَیْقًا هُ: کو اکھیڑنے کے لئے ٹیڑھا کرنا۔
دیك: ۱۔ الدِیْك: جمع دُیُوك وَاَدْیاك و دِیَكَة (ح): مرغا، مہربان، رحم کرنے والا، موسم بہار۔ بیضةُ الدِیك: یہ اس چیز کے لئے بطور مثال لاتے ہیں جو ایک ہی بار ہوتی ہو اور دوبارہ نہ ہو۔ ارضٌ مَدَاکة و مُدَاکة و مَدِیکة: بہت مرغوں والی زمین۔
۲۔ دَیَّکَس الرجلُ فی بیته: گھر میں چھپ کر بیٹھنا اور لوگوں کی حاجتوں کے لئے باہر نہ نکلنا۔
○ دِیك: جمع دِیَکة و دُیُوك واَدْیاك: مرغ، مرغا، دِیكُ الحبش: ترکی مرغ۔ دیك رومی: ترکی مرغ۔ وَزْنُ الدِیك: کم وزن گھونسے باز (ہلکے وزن ۱۱۸ پونڈ کا)
السُعالُ الدِیکی: کالی کھانسی۔
○ دِیکور: جمع دیکورات: سٹیج کی آرائش وزیبائش۔

○ دَیْماس و دِیْماس و دَیْمُوس: جمع دَیَامِیس: تہ خانہ، زمین دوز قلعہ، کال کوٹھڑی۔
○ دِیْمُوطِیقی مثالی (تحریر) عام لوگوں کی زبان کی۔
○ دِیْمقُراطی و دِیموقراطی: جمہوری، جمہوریت کا حامی، جمہوریت پسند۔ دِیْمُوقَراطِیة و دِیْمُقراطیة: جمہوریت، جمہوری رویہ یا اعتقاد۔
دیم دِیمَاغُوجیا سیاسی حالت جس میں اقتدار عوام کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا گیا ہو، جس کے نتیجہ میں ابتری پھیل جائے۔ لوگوں کو اشتعال دلانے کی سیاست (یونانی لفظ)
دان ۱۔ دَانَ دَیْنًاهُ کو قرض دینا۔ صفت: فاعلی: دائن صفت مفعولی مَدِین و مَدْیُون۔ ـالرجلُ قرض لینا، صفت دائن۔ دَایَنَ مُدَایَنَةً هُ: ایک دوسرے کو قرض دینا۔ اَدَانَ اِدَانَةً: قرض لینا۔ ـهُ: کو قرض دینا۔ تَدَیَّنَ: قرض لینا۔ تَدَایَن القومُ: ایک دوسرے سے قرض مانگنا، ادھار پر لین دین کرنا۔ اِدَّان اِدِّیانًا: قرض لینا۔ ـ الشیءَ: کو ادھار خریدنا، قرض پر خریدنا۔ اِسْتَدَانَ اِسْتِدانَةً: قرض لینا۔ الدَیْن: جمع دُیُون و اَدْیُن: مقررہ وقت تک ادھار، قرض کہا جاتا ہے۔ قَضَی دینَہ: وہ مرگیا۔ الدِیْنَة: مقررہ وقت تک ادھار۔ کہا جاتا ہے۔ بِعتُہُ بِدِیْنَة: میں نے اسے مہلت سے خریدا۔ المُدان: مقروض۔ قرض دار۔ المِدْیان: جمع مَدَایین: بہت قرض دینے یا لینے والا (اس میں مذکر ومونث یکساں ہیں)۔
۲۔ دَانَ-دِیْنًا الرجلُ: عزت دار ہونا، ذلیل ہونا، اطاعت کرنا، نافرمانی کرنا۔ ـ هُ: کو غلام بنانا، ناپسندیدہ بات پر ابھارنا، ذلیل کرنا، کی خدمت کرنا۔ ـدِیْنًا و دِیانَةً و تَدَیَّنَ بالنصرانیة: نصرانی دین قبول کرنا۔ دَیَّنَ هُ: کو مذہب اختیار کرنے دینا۔ الدِین: جمع اَدْیان: اطاعت، فرمانبرداری، نافرمانی، پرہیزگاری۔ دین، مذہب، ملت، سیرت، عادت، حالت، شان، جبر، قہر، غلبہ، کہا جاتا ہے۔ قومٌ دِینٌ: اطاعت شعار لوگ۔ الدَیِّن: دین دار، دین پر کاربند، دین کا پرستار۔ المَدِین: مونث مَدِینة: غلام، لونڈی کہتے ہیں۔ لفلان مدین و مدینة: فلاں شخص کے پاس لونڈی غلام ہیں۔ الدِیْنَة: اطاعت، عادت، الدَیَّان: غلبہ والا۔ الدِیانَة: جمع دِیَانات: دینداری، ملت و مذہب۔
۳۔ دَانَ-دَیْنًا فلانًا: سے بدلہ لینا۔ ـ دِیْنًا فلانًا: پر احسان کرنا، کو سزا کا حکم دینا، کا مالک ہونا۔ دَیَّنَ هُ الشیءَ: کو کسی چیز کا مالک بنا دینا۔ دَایَنَ مُدَایَنَةً

هُ: کو فیصلہ کے لئے حاکم کی طرف لیجانا۔ الدِیْن: جمع اَدْیان: بدلہ، فیصلہ، حکومت، اقتدار، طاقت، تدبیر، محاسبہ، حساب۔ اسی سے ہے یومُ الدین: یعنی یوم حساب۔ المَدِین: مونث مَدِینة: بدلہ دیا ہوا، جس سے حساب لیا گیا ہو۔ الدَیَّان: اللہ تعالیٰ کا اسماء میں سے ہے۔ قاضی، حساب لینے والا، بدلہ دینے والا، حاکم الدَیْنُونة: قضا، حساب۔
۴۔ دینامو (فی): ڈینمو، جنریٹر۔ الدِینَامی: چست، قوت عمل رکھنے والا، حرکی قوت کا، قوت آفرین۔ اس نظریہ کا ماننے والا کہ ذہن اور مادہ فطری قوتوں کی حرکت سے پیدا ہوئے ہیں۔ الدینامیت: ڈائنامائٹ (Dynamite) الدینامیه: یہ نظریہ کہ ذہن اور مادہ فطری قوتوں کی حرکت سے پیدا ہوئے ہیں۔ (اصل جوہر قوت ہے) حرکی حالت۔ ایک فلسفی مذہب کہ مادی عناصر میں بعض قوتیں ہیں جن کا مرکب عمل جسموں کے امتداد اور خصائص کی تعیین کرتا ہے۔ ارسطو کا فلسفہ اثر آفرین تھا۔ عربی میں الفلسفة الوضعیة: سے پہچانا جاتا ہے۔ دِینامُومتر: ڈینمومیٹر۔ برقی قوت اور دوربین کی طاقت ناپنے کا آلہ (یونانی لفظ)۔
○ دَانَ-دَیْنًا: قرض لینا، قرض دار ہونا، مقروض ہونا۔ ـ ل ب: کا کے لئے مرہون منت ہونا۔ دان له بالشکر: کا ممنون ہونا۔ ـ ل ب: کا کے لئے ممنون ہونا، مرہون منت ہونا۔ ـ ل: کی بات مان لینا، کے زیر اقتدار ہونا، کا فرمانبردار ہونا۔ ـ ه: کو قرض دینا، ادھار دینا کو غلام بنانا، مغلوب کرنا، زیر نگین کرنا، کو بدلہ دینا، معاوضہ دینا، کو سزا دینا، کے خلاف فیصلہ دینا۔ دَایَنَ ه: کا مقروض ہونا، قرض خواہ ہونا۔ دَایَنَهُ بمبلغ خمسة قروش: اس کا اس پر پانچ قروش کا دعویٰ تھا۔ اَدَانَ ه: کو قرض دینا، کو کوئی چیز ادھار دینا کوئی چیز قرض پر فروخت کرنا، کو مجرم قرار دینا، جرم ثابت کرنا۔ تَدَیَّنَ: مقروض ہونا۔ ـل: کا ہدف بننا۔ تداینوا بدین: ایک دوسرے سے قرض لینا، باہمی قرض کا معاہدہ کرنا۔ استدان: قرض لینا۔ دَیْن: جمع دُیُون: قرض مالی، حساس ذمہ داری، فرض، قرض، بار، بوجھ ذمہ داری، دعویٰ، مالی دعویٰ۔ بالدَیْن: قرض پر۔ ربُّ الدَین: قرض خواہ۔ دُیُونُ الحرب: جنگی قرضے۔ دین مضمون: قرض جس کی ادائیگی کا ذمہ لیا گیا ہو۔ دین ممتاز ترجیح دیا یا مراعات یافتہ قرض۔ دینٌ مُوَحَّد: مستحکم قرض۔ دَیْنُونة: فیصلہ آخری فیصلہ۔ الدَیّان: اللہ تبارک وتعالیٰ۔

مَدِینۃ ۔ جمع مَدَائِن و مُدُن: شہر۔ المدینۃ: مدینہ منورہ (سعودی عرب میں) اِدَانَۃ: اثبات جرم، مجرم قرار دینا۔ صَدَرَ الحُکمُ بادانتِہ: اسے مجرم قرار دیا گیا۔ اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ استدانۃ: قرض اٹھانا، لینا۔ دائِن: قرض خواہ۔ مَدْیُون: مقروض، قرض دار، مرہون منت، مَدْیُونِیَۃ: قرض داری، احسان مندی، ممنونیت، مَدِین: قرض دار، مقروض، مَدِین بالشکر: ممنون۔ کَانَ مدیناً لِ: کا مقروض ہونا۔ مُدِین: قرض خواہ، قرض دینے والا۔ مُدَان: جسے مجرم قرار دیا گیا ہو، جس کو مجرم پایا گیا ہو۔ مجرم، ناکارہ قرار دیا گیا، رد کیا گیا، فیصلہ سنایا گیا۔ دَانَ ـــ ب: کو ماننا، تسلیم کرنا، کا اعتراف کرنا (خصوصاً مذہب، عقیدہ وغیرہ) دان بالاسلام: اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دان بِعَاداتِہ: اپنے رواجوں سے وابستہ رہنا۔ تَدَیَّن ب: مذہب وغیرہ قبول کرنا، ماننا، تسلیم کرنا، دِین جمع ادیان: دین، مذہب، یقین، عقیدہ، اعتقاد، ایمان۔ یوم الدین: فیصلہ کا دن، دِینی: دینی، مذہبی، روحانی، لادینی: بے دین۔ العلم الدینی: دینی علم۔

دَیِّن: نیک، دینی، مذہبی، خدا پرست، بہت دیندار، پرخلوص سچا۔ دِیَانَۃ: جمع دِیَانَات: مذہب، مذہبی اخوت، ہم مذہبی، عقیدہ۔ فرقہ، گروہ۔ دَیَّان: نیک، خدا پرست، بہت دیندار، مذہبی، دینی، سچا مخلص۔ تَدَیُّن: پارسائی، زہد و اتقا، خدا ترسی، خدا پرستی، صدق اخلاص، مذہبیت۔ مُتَدَیِّن: نیک، خدا پرست، بہت دیندار، سچا مخلص، مذہبی۔ مُتَدَیِّنَۃ: مذہبی فرقہ یا گروہ یا بھائی چارہ۔

ذ

۔ بلفظ ذال حروف تہجی کا نواں صرف ہے اور ابجد کے حروف میں ۷۰۰ کے برابر ہے۔

ذ اسم اشارہ قریب کے لئے۔ تثنیہ ذان بحالت رفعی و ذَین نصب اور جری حالت میں اسکی جمع اولاء۔ تصغیر شاذ ذَیّا ہے۔ تنبیہ کی ھ داخل ہونے پر کہا جاتا ہے۔ ھذا۔ ذ الذی کے معنی میں ہوتا ہے بشرطیکہ ما و مَن استفھامیہ کے بعد واقع ہو اور اشارہ کے لئے نہ ہو۔ جیسے ماذا فعلت: تم نے کیا کیا؟ ومَن ذا فی الدار: گھر میں کون ہے۔ اسم استفہام کے ساتھ بھی آتا ہے جیسا لماذا ترکتنا: تو نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟

ذاك اسم اشارہ متوسط کے لئے۔ تنبیہ کی ھا کے ساتھ آپ کہتے ہیں۔ ھذاك تصغیر۔ ذَیّاك اور تثنیہ ذانِك بحالت رفعی و ذینك نصبی و جری حالت میں۔ اس کی جمع بھی اولائك ہے۔ ذلِك اسم اشارہ بعید کے لئے ہے۔ تثنیہ ذانّك جمع اُولائك اور تصغیر ذیّالِك۔

ذا جمع اولاء یہ، یہ ایک۔ بِذا اس سے، اس کے ذریعے، اس ذریعے سے، اس طرح، یوں۔ لِذا اس لئے۔ کَذَا ایسے، اس طرح، اسی طرح، یوں، اس حد تک، اتنا، فلاں۔ ھٰکذا یوں، اس طرح۔ ماذا کیا۔ لِماذا کیوں۔ ھو ذا وہ ایک ہی ذی وہ ایک، اس ایک کی طرف دیکھو، کیوں، یعنی، اب اگر ایسا نہیں۔ ھاءَ نذا دیکھو، یہ میں ہوں، یہاں میں ہی ہوں جمع ھا نحنُ اُولاء دیکھو یہ ہم ہیں، یہاں ہم ہی ہیں۔ ذو کا مالک یا قابض، رکھنے والا (بحالت رفعی) ذی بحالت جری۔ ذاكَ مونث ۔ تاكَ، تِيكَ جمع اُولئك یہ، یہ ایک۔ اِذذاك تب، اس وقت، ان دنوں۔ ذلِكَ مونث تِلْكَ جمع اولائك وہ، وہ ایک۔ بذلك اس سے، اس ذریعے سے اس طرح۔ لذلك اسلئے۔ بَعْدَ ذلك اس کے بعد، اس پر۔ بعدازاں، پھر، اس کے بعد، اس وجہ سے، اس لئے، چنانچہ۔ مع ذلك تاہم، پھر بھی، بایں ہمہ، اس کے باوجود، اس کے باوصف۔ و ذلك یعنی و ذلك لانّ اس کی وجہ یہ ہے کہ، اس ایک وجہ سے کہ۔ ذلك بانّ اس حقیقت کی وجہ سے کہ۔ کذلك یوں، اس طرح، یکساں، اسی انداز سے، بھی، نیز ذٰلِکُم مونث تِلْکُمْ جمع اُولٰئِکُمْ وہ ایک۔ (ذلک کی جمع) ھذا مونث ھٰذِہ ھذی جمع ھٰؤلاء تثنیہ ھذان مونث ھاتان یہ، یہ ایک۔

ذاب ۱۔ ذَأَبَ ۔ ذَأْباً الدابّۃَ جانور کو ہانکنا۔۔۔ فی السیر جلدی چلنا۔

۲۔ ذَأَبَ ۔ ذَأْباً الشیء کو جمع کرنا۔ الغلام لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَأَّبَ و اَذْأَبَ الغلام لڑکے کی زلفیں بنانا۔ الذؤابۃ، جمع ذوائِب زلف، گیسو، بالوں کی لٹ، لڑ۔ (دھمکی میں کہا جاتا ہے لأفتکنّ فی ذُؤابتك میں تجھے ذلیل کروں گا)۔ پیشانی کے بال، تلوار کی (چمڑے کی) پٹی۔۔۔ کلِّ شیء ہر شے کا بلند حصہ۔ اس سے ہے۔ ھو ذُؤابۃُ قومِہ وہ اپنی قوم کا پیشوا ہے۔ علوتُ ذؤابۃَ الجبل: میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا۔۔۔ الرَّحْلِ کجاوہ کے آخر میں لگی ہوئی کھال۔۔۔ النعلِ جوتے کا کٹا ہوا وہ تسمہ جو زمین پر قدم کے نیچے آئے۔ الذُّؤبان: اونٹ کی گردن کے بال، ہونٹ کے بال، کاٹنے کے بعد بچی ہوئی اون۔

۳۔ ذَأَبَ ۔ ذَأْباً الرجلَ بہت زور سے آواز نکالنا۔ ہٗ کو خوف دلانا، دھتکارنا، کی مذمت کرنا۔۔۔ تہُ الریحُ کو ہوا کا چاروں طرف سے لگنا۔ ذَئِبَ ۔ ذَأَباً و ذَؤُبَ ۔ ذَآمَۃً مکاری اور خباثت میں بھیڑیے کی طرح ہونا، بھیڑیے سے ڈرنا۔ ذُئِبَ بھیڑیے سے ڈرنا، بھیڑیے کا بکریوں میں گھس جانا۔ ذَأَّبَ ہٗ کو خوف دلانا۔ اَذْأَبَ بھیڑیے سے خوف زدہ ہونا۔ ۔تِ الارضُ زمین کا بہت بھیڑیوں والی ہونا۔ تَذَأَّبَ شرارت اور مکاری میں بھیڑیے کی طرح ہونا۔ الشیءَ کو باری باری سے لینا۔ و تَذَاءَبَ لِلناقۃ اونٹنی کو دوسرے بچہ پر مہربان بنانے کے لئے بھیڑیے جیسا بن کر چھپنا۔ تہُ الجنُّ کو جن کا ڈرانا۔ تہُ الریحُ کے پاس ہوا کا چاروں طرف سے آنا۔ ۔تِ الریحُ علیہ پر ہوا کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح چلنا۔ اِسْتَذْأَبَ اِسْتِذْآباً بھیڑیے کی طرح ہونا۔ الذِئبُ جمع ذِئاب و اَذْؤُب و ذُؤْبان اور الذِیبُ بھی۔ (ح) بھیڑیا۔ داءُ الذئبِ بھوک۔ ذُؤبان العرب عرب کے چور اور فقیر لوگ۔ الذِئبۃ بھیڑیے کی مادہ۔ ارض مَذْأَبۃ بہت بھیڑیوں والی زمین۔

۵۔ الذَأَبُ تحش۔ الذِئبۃ (طب) جانوروں کے حلق کی ایک بیماری، کجاوہ اور زین کے ہر دو جانب کے درمیان کی فراخی۔

○ اِسْتَذْأَبَ بھیڑیے جیسا ہونا، بھیڑیے جیسا درندہ صفت اور سفاک ہونا۔ ذِئب جمع ذِئاب و ذُؤبان گیدڑ، بھیڑیا، گرگ۔ مرض الذئب الاحمر ایک غیر متعدی جلدی بیماری۔ ذُؤابۃ جمع ذَوائِب بالوں کی لٹ، کاکل، زلف، لڑ، گھاس کا چھوٹا سا مٹھا۔

ذئر ۱۔ ذَئِرَ ۔ ذَأَراً غضبناک ہونا۔ عنہ سے ڈرنا،

گھبرانا، نفرت کرنا، پر ناک چڑھانا، صفت۔ ذئِر و ذائِر۔ وذائرَ علیه پر جرأت کرنا، دلیری کرنا۔ تِ المرأۃ علی رجلها عورت کا اپنے شوہر کا نافرمان ہونا، اسکی اطاعت سے باہر ہونا۔ صفت۔ ذائِر و ذئِر و ذَئِرة و مُذائِر اَذْأَرَهُ کو غضبناک کرنا، ناراض کرنا، جرأت دلانا، اکسانا۔ ہُ اِلی کذا کو پر مجبور کرنا، مضطر کرنا۔ ہُ بصاحِبِه کو اس کے ساتھی کا مخالف بنانا۔

۲۔ ذئِر۔ ذَأَرًا بالشیء کا عادی ہونا خوگر ہونا۔

ذاط: ذَأَطَ۔ ذَأْطاً ہُ کو ذبح کرنا، کا گلا گھونٹنا یہاں تک کہ اسکی زبان باہر نکل آئے۔ الاناءَ برتن کو بھرنا۔ الاناءُ برتن کا بھرنا۔

ذاف: ذَأَفَ۔ ذَأْفاً مرنا۔ ذأْفاً و ذَأَفاً و اَذْأَفَ علی الاسیر وہُ قیدی کو یا کسی کو فوراً مار ڈالنا۔ انْذَأَفَ دل کا کٹ جانا اور مر جانا۔ موتٌ ذُؤَاف اچانک موت۔ سمٌّ ذُؤَاف زہر قاتل۔ الذأْفان موت۔ والذِئفان و الذُؤْفان و الذَيْفان و الذيَفان: زہر قاتل۔

ذال: ذَأَلَ۔ ذَأْلاً و ذَأَلاناً آہستہ آہستہ ناز سے چلنا۔ تَذاءَل ذلیل بننا، چھوٹا بننا۔ ذُؤَالة جمع ذُؤْلان و ذِئْلان بھیڑیے کا علم جنس۔ الذأْلان و الذُؤْلان: (ح) بھیڑیا، گیدڑ۔ المِذْأَل سبک و تیز رو۔

ذال حرف ذ کا نام۔

ذام: ذَأَمَ۔ ذَأْماً ہُ: پر عیب لگانا، کو رسوا کرنا، کی تحقیر کرنا، کو دھتکارنا۔ اَذْأَمَ اِذْآماً ہُ علی کذا کو پر مجبور کرنا۔ الذأْم و الذَام: عیب، ضرب المثل ہے۔ قد لا تُعْدَمُ الحسناءُ ذاماً کبھی خوبصورت عورت بھی عیب سے پاک نہیں ہوتی۔ الذأْمه کلمہ کہا جاتا ہے۔ ماسمعتُ له ذأْمةً: میں نے اس کا کوئی کلمہ (قول) نہیں سنا۔

ذب: ا۔ ذَبَّ۔ ذَبّاً عنه کو سے روکنا، کی سے حمایت کرنا۔ الذَبّاب و المِذَبّ اپنے اہل اور قوم کا دفاع کرنے والا، اہل و قوم کی حمایت کرنے والا۔

۲۔ ذَبَّ۔ ذَبّاً و ذَبَباً و ذُبُوباً گرمی یا پیاس سے خشک ہونا۔ النبتُ: پودہ کا مرجھانا۔ جسمُهُ کا جسم لاغر ہونا۔ ذَبَّبَت تَذْبيباً شفتهُ کے ہونٹوں کا پیاس وغیرہ کی وجہ سے خشک ہونا۔ النهارُ دن کا تھوڑا حصہ باقی رہ جانا۔ الذَبّان پیاس وغیرہ سے مرجھایا ہوا۔ ذُبابَةُ الشیءِ چیز کا بقیہ۔

۳۔ ذُبَّ البعيرُ او الرجلُ اونٹ یا آدمی کا پاگل ہونا۔ الذُباب جنون۔

۴۔ ذُبَّ الفرسُ گھوڑے کے نتھنے میں مکھی کا گھس جانا۔ صفت۔ مَذْبُوب۔ ذَبَّبَ تَذْبيباً بہت دفع کرنا۔ اَذَبَّ المکانُ جگہ کا بہت مکھیوں والی ہونا۔ صفت۔ مَذْبُوب و مُذِبّ۔ الذَبّ: بہت حرکت کرنے والا۔ جنگلی بیل۔ الاَذَبّ جنگلی بیل۔ الذُباب جمع اَذِبّة و ذِبّان و ذُبّ واحد ذُبابَة (ح) مکھی، نیز بھڑ، شہد کی مکھی، مچھر (پر بھی اطلاق ہوتا ہے)۔ المِذَبّة جمع مِذَبّات و مَذاب مورچھل، چنوری کہتے ہیں۔ اذنابها مَذابّها: جانوروں کی دمیں انکی چنوریاں ہیں۔ ارضٌ ذَبُوبة و مَذْبُوبة بہت مکھیوں والی زمین۔

۵۔ الاَذَبّ لمبا، اونٹ کی کچلی۔ الذُباب طاعون، تپ دق، بدقسمتی، ہمیشہ رہنے والی بیماری۔ ذُبابُ السیف تلوار کی دھار۔ العین آنکھ کی پتلی کہا جاتا ہے۔ هو اَعز من ذُباب العین وہ آنکھ کی پتلی سے زیادہ عزیز ہے۔ عطشٌ مُذَبِّب بہت سخت پیاس۔ راکبٌ مُذَبِّب اکیلا تیز رفتار سوار۔

۶۔ ذَبْذَبَ الشیءُ المعَلّقُ فی الهواء ہوا میں لٹکی ہوئی چیز کا ہلنا، حرکت کرنا۔ الشیءَ: کو ہلانا، حرکت دینا۔ تَذَبْذَبَ: متحرک ہونا۔ الذَبْذَبَة جمع ذَباذِب زبان، ہوا میں ہلنے والی چیز، پالکی میں آرائش کے لئے لٹکائی جانے والی چیزیں۔ الذَباذِب لباس کا سنجاف یا پھندے۔

۷۔ ذَبْذَبَ اهلَه اپنے اہل کی حمایت کرنا۔ الخلْقَ مخلوق کو ایذا دینا۔

۸۔ ذَبْذَبَ الرجلُ: متردد و حیران ہونا۔ ہُ کو متردد و حیران چھوڑنا۔ تَذَبْذَبَ دو باتوں میں پس و پیش کرنا۔ المُذَبْذِب پس و پیش کرنے والا۔

ذَبَّ۔ ہُ/ ہ کو نکال دینا۔ عن کا دفاع کرنا۔ ذُباب واحد ذُبابَة جمع اَذِبّة و ذِبّان: مکھیاں۔ ذُبابٌ قارِض بڑ مکھی۔ ذُبابة جمع ذُبابات مکھی، تلوار کی نوک۔ ذُبّانة و ذِبّانة مکھی (جس سے نشانہ لگانے میں مدد لی جاتی ہے)۔ مِذَبّة مورچھل۔

ذَبْذَبَ ہ کو ہلانا، لہرانا، جھلانا، لٹکانا۔ تَذَبْذَبَ ہلنا، ڈولنا، جھولنا، ڈانواں ڈول ہونا، آگے پیچھے حرکت کرنا، ہلنا، مڑنا، مرتعش ہونا، بدلتے رہنا، مقناطیسی سوئی کا مرکزی نقطہ سے منحرف ہونا، ادھر ادھر ہلنا، تھرتھرانا، پس و پیش کرنا، ڈگمگانا، مذبذب ہونا، تذبذب میں پڑنا، متامل ہونا، تامل کرنا، ہچکچانا۔ ذَبْذَبة جمع ذبذبات ہلتی جلتی حرکت، لٹکتے ہوئے ہلنا، جھولنا، ڈانواں ڈول ہونا، پنڈولم کی طرح ہلنا۔ آگے پیچھے حرکت کرنا، ارتعاش، اہتزازی حرکت۔ تَذَبْذُب پنڈولم کی طرح حرکت، لٹکتے ہوئے ہلنا، ہلنا، جھولنا، آگے پیچھے حرکت، مرکزی نقطہ سے انحراف (مقناطیسی سوئی کا)۔ مُتَذَبْذِب جھولنے والا۔ مُذَبْذَب گھٹنے بڑھنے والا، بدلتے رہنے والا، اترنے چڑھنے والا۔ بدلنے والا، تغیر پذیر، جھولنے والا، پس و پیش کرنے والا، مذبذب، بار بار رائے بدلنے والا۔ ڈگمگانے والا، ہچکچانے والا۔

ذبح: ا۔ ذَبَحَ۔ ذَبْحاً و ذَبَحاناً ہُ کو پھاڑنا، ذبح کرنا، کا گلا گھونٹنا۔ الدَنَّ مٹکے میں سوراخ کرنا۔ ذَبَّحَ القومَ لوگوں کو ذبح کرنے میں مبالغہ کرنا۔ اِذَّبَحَ: ذبح چننا، ذبح کے لئے جانور لینا۔ تَذابَحُوا ایک دوسرے کو ذبح کرنا۔ الذِبْح ذبح شدہ، مقتول۔ الذابِح (فا): داغ لگانے کا آلہ جس سے گردن کے وسط میں داغ لگائیں۔ الذَبِيح ذبح کیا ہوا، قابل ذبح برائے قربانی۔ المِذْبَح جمع مَذابِح ذبح کرنے کا اوزار۔ المَذْبح جمع مَذابِح ذبح کرنے کی جگہ۔ مذابحُ الكنائس: گرجا کی قربان گاہیں۔ الذُباح و الذُبّاح و الذِباح و الذُبْحه و الذِبْحه و الذُبَحَة و الذِبَحة: (طب) حلق کا درد۔ الذَبِيحة جمع ذَبائِح ذبیح کا مونث، ذبح کیا جانے والا جانور۔

۲۔ الذِبَح و الذُبَح (ن) سانپ کی چھتری کی ایک قسم۔

ذَبَحَ۔ ذَبْحاً ذبح کرنا، گلا کاٹنا، چھری پھیرنا، قتل عام کرنا، قتل کرنا، مار ڈالنا۔ ہ: جانور کی قربانی دینا، قربانی کرنا، بھینٹ چڑھانا۔ ذَبَّحَ مارنا، قتل کرنا، ذبح کرنا، گلا کاٹنا، چھری پھیرنا، قتل عام کرنا۔ ذَبْح ذبح، ذبح کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، قتل عام، خونریزی، کشت و خون۔ ذِبْح قربانی کا جانور، چڑھاوے یا نیاز کا جانور، خونی قربانی۔ ذِبْحة و ذُبَحَة دل کی بیماری۔ خناق۔ الذبحه الصَدْرِية صدری مرض۔ الذُبْحة الفؤادية دل کی بیماری۔ ذَبّاح ذبح کرنے والا، مارنے والا، قتل کرنے والا، قاتل، قصائی، قصاب۔ ذَبِيح ذبح کیا ہوا۔ ذَبِيحة جمع ذَبائِح ذبح کیا جانے والا جانور، قربانی کا جانور، خونی قربانی، قربانی، بلیدان، چڑھاوا، نذر، نذرانہ، مذہبی کاموں کے لئے عطیہ۔ مَذْبح جمع مَذابِح ذبح خانہ، قربان گاہ، نذر نیاز، چڑھانے کا چبوترہ۔ مَذْبَحه قتل عام، قتل و غارت، خونریزی، کشت و خون، خون خرابہ۔

زبر: ا۔ ذَبَرَ۔ ذَبْراً الكتابَ: کتاب لکھنا، کتاب پر نقطے لگانا۔ ذَبَّرَ الكتابَ: کتاب لکھنا، کتاب پر نقطے لگانا۔ الذِبْر (مص) جمع ذِبار: کتاب۔ المِذْبَر قلم۔

۲۔ ذَبَرَ۔ ذَبْراً الكتابَ کتاب کو جلدی پڑھنا۔ الشیءَ کو جاننا، اچھی طرح سمجھنا۔ ذَبْراً

وَذَبارةً اچھی طرح دیکھنا۔ ـــ الشعرَ شعر پڑھنا۔ الخبر خبر کو سمجھنا۔

۳۔ ذبر - ذبراً علیه پر غصہ ہونا۔

ذبل ا۔ ذَبَل و ذَبُل - ذُبولاً و ذَبَلاً النباتُ پودے کا مرجھانا۔ الفرسُ گھوڑے کا لاغر ہونا۔ لسانُهُ اوشفتُهُ کی زبان یا ہونٹ کا خشک ہونا کہا جاتا ہے۔ ذبلتهُ ذبولٌ اس کو مصیبت پہنچی۔ اَذبَلَ النباتَ او الفرسَ پودے کو پژمردہ کرنا یا گھوڑے کو لاغر کرنا۔ الذبل گمشدگی۔ الذُبلہ پیاس سے ہونٹوں کا خشک ہونا۔ الذبله مینگنی۔ الذابل (فا) جمع ذُبّل و ذُبُل باریک، دُبلا۔ الذابلۃ جمع ذوابل ذابل کا مونث۔ عینٌ ذابلۃٌ نیم باز آنکھ، مستانہ آنکھ۔ الذوابل نیزوں کی صفت بن کر آتا ہے کہتے ہیں۔ الرماحُ الذوابلُ باریک نیزے، خود نیزوں کو بھی ذوابل کہا جاتا ہے۔ الذبالہ و الذُبّالہ جمع ذُبال بتی۔

۲۔ تذبّلَ فی المشی مٹک کر چلنا، ناز سے چلنا۔ الذّبل آغاز جوانی، کچھوے کے پیٹھ کی ہڈی۔

ⓒ ذبل و ذبُل ذبلاً و ذبولاً مرجھا جانا، پژمردہ ہونا، سوکھنا، خشک ہونا، زرد ہو جانا، کا رنگ پھیکا پڑ جانا، دبلا اور کمزور ہو جانا، کند ذہن ہو جانا، آنکھ کا چمک دمک کھو دینا۔ ذَبل مختلف رنگوں میں پایا جانے والا سخت، ہموار اور چمکدار مادہ جو بعض صدفوں کے کھپروں میں تہہ بناتا ہے۔ ا، بٹن اور زیورات وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ذُبالہ بتی۔ ذابل جمع ذُبّل مرجھایا ہوا، پژمردہ، خشک، پھیکا یا اڑا ہوا، یا زرد ہو جانے والا (رنگ)، نڈھال، سست رفتار، کند ذہن، غبی، بے نور، کمزور، پژمردہ (اچٹتی نظر) کمزور، تھکا ہوا۔

ذج ذَجَّ - ذجًّا سفر سے آنا۔ الماءَ پانی پینا۔

ذجل ذَجَلَ - ذُجلاہٗ پر ظلم کرنا۔

ذح ا۔ ذَحَّ - ذَحّاهُ کو تھپڑ مارنا۔ ـــ الحطب لکڑی پھاڑنا۔ الفلفل مرچ کوٹنا۔

۲۔ ذحذح چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر تیز چلنا۔ ـــ ت الریحُ التراب ہوا کا مٹی اڑانا۔

ذحج ذَحَجَ - ذَحْجاهُ کو چھیلنا، حرکت دینا۔ ـــه الریحُ کو ہوا کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ ـــت المرأة بولدها عورت کا بچہ جننا۔

ذحل الذَحل جمع ذُحول و اَذحال خون کا بدلہ (آپ کہتے ہیں لی عندھم ذُحول میرے ان کے ہاں کئی خون کے بدلے ہیں) دشمنی، کینہ۔

ⓒ ذَحل جمع اذحال و ذُحول بیر، غصہ، آزردگی، ناراضگی، خفگی، بغض، کینہ، عناد، عداوت، دشمنی، نفرت، جذبہ انتقام، انتقام جوئی، کینہ دری، کینہ پروری، انتقام کا متلاشی ہونا، خون کا بدلہ۔

ذحی ذَحَی - ذَحْیاً الصوفَ اون کوٹنا، دھننا۔ ـــ ت الریحُ القومَ قوم کو کھلی ہوا لگنا۔ المَذحاۃ جمع مَذاحٍ زمین جس پر درخت نہ ہوں۔

ذخر ا۔ ذَخَرَ - ذَخْراً الشیءَ کو ضرورت کے وقت کے لئے ذخیرہ کرنا، کو دنیا یا آخرت کے لئے تیار کرنا۔ اِذَّخَرَ و اِدَّخَرَ ضرورت کے وقت کے لئے ذخیرہ کرنا۔ الذُخر جمع اَذخار: ذَخَرَ کا اسم، ذخیرہ، وہ شے جس کا ذخیرہ کیا جائے۔ الذاخر (فا) موٹا، فربہ۔ الذخیر (اع) آتشی اسلحہ میں رکھا جانے والا بارود۔ الذخیرۃ جمع ذخائر ذخیرہ، خزانہ۔ ذخائر القدیسین مسیحی اولیاء کے ذخیرے۔ ذخائر الحرب جنگ کے ذخائر، گولہ بارود اور فوجی سامان کہتے ہیں۔ اعمال المومنین ذخائر عند اللّٰہ مومنین کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس ذخیرہ ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے نیک اعمال اپنی آخرت کے لئے تیار کر رکھے ہیں) گردن کا زیور جس کے اندر مقدس آثار کی کوئی چیز ہو تبرک کے لئے۔ المُذخِر (اع) فوج کو گولہ بارود فراہم کرنے والا، فوجی سامان مہیا کرنے والا۔ المَذخر جمع مَذاخر ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ المَذاخر جوف (جمع) انتڑیاں، رگیں، پیٹ کے نچلے حصے۔ الإذخِر واحد إذخِرۃ جمع اَذاخِر (ن): ایک قسم کی خوشبودار نبات، سبز گھاس۔

ⓒ ذخر - ذخراً ہ کو اپنے پاس رکھنا، کو محفوظ کرنا، کا ذخیرہ کرنا، بچا کر رکھنا، بچانا، ضرورت کے لئے بچانا، برے وقت کے لئے بچا کر رکھنا، آڑے وقت کے لئے بچانا۔ اِذَّخَرَ ہ کو اپنے پاس رکھنا، محفوظ رکھنا، ذخیرہ کرنا، کو بچا کر رکھنا، کو جمع کرنا، مستقبل کے لئے جمع کرنا، حفاظت کے لئے رکھنا، سینت سینت کر رکھنا، کا ڈھیر لگانا، اکٹھا کرنا، آڑے یا برے وقت کے لئے بچا کر رکھنا، بچانا۔ اِذَّخَرَ حُبًّا لِ کے لئے محبت دل میں رکھنا۔ لایدخر جهدًا کسی کوشش سے دریغ نہ کرنا۔ ذُخر جمع اَذخار سٹور کی ہوئی چیز، ذخیرہ کی ہوئی چیز، جمع کی ہوئی یا ڈھیر لگائی ہوئی چیزیں، رسد، خزانہ۔ ذخیرۃ جمع ذخائر خزانہ، رسد، ذخیرہ، سٹور، خوراک، اشیائے خوردنی، گولہ بارود، فوجی سامان (مقدس) تبرک، یادگار۔ اِدّخار جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، سینت سینت کر رکھنا، ڈھیر لگانا، ڈھیر، مستقبل کے لئے جمع کرنا، حفاظت کے لئے رکھنا، بچانا، اکٹھا کرنا۔ مُدّخِر جمع مُدّخِرون معاون توپچی۔ گولہ بارود فراہم کرنے والا۔ مُدّخَر جمع مُدّخَرات رسد، بہم پہنچائی ہوئی چیز۔ مُدّخَرۃ جمع مُدّخَرات برقی مخزن، مخزن برق، برقی ذخیرہ۔ Storage battery بیٹری، توپ خانہ، برقی مورچہ۔

ذر: ذَرْ بمعنی دَعْ چھوڑ چھوڑ دے۔ دیکھو وذر۔

ذرّ: ا۔ ذَرَّ - ذَرًّا الملحَ نمک چھڑکنا۔ ـ الحَبَّ فی الارض زمین میں دانہ بونا۔ ـت الارضُ النباتَ زمین کا نبات اگانا۔ ذرًّا و ذُروراً القرنُ او النباتُ سینگ یا سبزہ کا پھوٹنا۔ ـت الشمسُ آفتاب کا طلوع ہونا، سورج کا نکلنا۔ ـ الرجلُ مرد کے سر کے اگلے حصہ کا سفید ہونا۔ الذرّ ہوا میں منتشر غبار، چھوٹی چیونٹیاں، کرک، نسل۔ الذرّۃ: الذرّ کا واحد جمع ذرّات ذرہ، انتہائی چھوٹا جزء۔ اسے الجوہر الفرد یا ایٹم Atom بھی کہا جاتا ہے۔ من الجسم البسیط (ک) جسم بسیط کا سب سے چھوٹا جزء جو کیمیائی عملوں کے قابل ہو۔ عام خیال تھا کہ ذرہ مطلقاً تقسیم نہیں ہوتا، جدید سائنس نے اسے پھاڑ ڈالا۔ ریڈیم جیسے چمکدار اجسام میں بھی اس کی تقسیم دیکھی گئی ہے۔ ذرہ مرکزی حصہ سے بنا ہوا ہے جس کے گرد برقیے گردش کرتے رہتے ہیں ان برقیوں کی تعداد جسم کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ الذرور جمع اَذِرّۃ آنکھ یا زخم میں چھڑکنے کی دوا، عطر۔ الذرّی: تلوار کا جوہر۔ ذُرّیۃ الرجل (بتثلیث الذال) جمع الذراری والذُرّیات: اولاد و نسل، بعض کے نزدیک اس کی اصل الذر بمعنی تفریق ہے۔ القنبلۃ الذریۃ (اع) ایٹم بم۔ الأسلحۃ الذریۃ (اع) وہ اسلحہ جن سے ایٹم بم چلایا جاتا ہے۔ الذّراۃ ذرور خوشبو سے جو چھڑکے۔ الذّریرۃ: ایک قسم کی خوشبو۔ المِذرّۃ: غلہ وغیرہ بکھیرنے یا چھڑکنے کا آلہ۔

۲۔ ذرَّ - ذرًّا و ذُروراً اللحمُ: گوشت کا سکڑنا۔

۳۔ الذِرار غضب، غصہ۔

۴۔ ذرذر الملحَ او الحَبَّ: نمک یا دانہ چھڑکنا، بکھیرنا، بونا۔ الذرذار باتونی، بکواسی۔

ⓒ ذرَّ - ذرًّا ہ کو بکھیرنا، پھیلانا، چھڑکنا۔ ـــه ب پر کوئی چیز چھڑکنا، پر کے چھینٹے ڈالنا۔ ذرّ الرمادَ فی عینیہ کی آنکھوں میں دھول ڈالنا۔ ـ ذُروراً (سورج کا) طلوع ہونا، نکلنا، افق پر روشن ہونا۔ ذرَّ قرنُهُ نکلنا، ابھرنا، ظاہر ہونا، دکھائی دینے لگنا۔ ذرّ چھڑکنا، بکھیرنا، پھیلانا، چھینٹے ڈالنا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ذرات، ایٹمز، ذرے، چھینٹیں، ادھے ادھرے۔

ذَرَّة جمع ذَرَّات: ذرہ، ایٹم، چھوٹا ذرہ ٹکڑا، چھینٹا، دھبہ، ریزہ۔ مثقال ذرّة ذرہ جتنا، ذرہ بھر، چھوٹا ٹکڑا، ریزہ، پارہ، مقدار۔ ذرّة تھوڑا سا، ذرہ بھر، ریزہ بھر، تل بھر، خفیف مقدار۔ ذرّة من شكٍّ ذرا سا شک۔ ذَرِّی ایٹمی۔ قُنبُلَة ذَرِّيَة ایٹم بم۔ النشاطُ الذَرِّيُّ وطاقةٌ ذرّية ایٹمی طاقت۔ ذُرُور پاؤڈر، سفوف۔ ذُرُورِیّ سفوف بنا ہوا، سفوف سا، پسا ہوا، جس کو با آسانی سفوف بنایا جا سکے۔ ریزہ ریزہ کیا ہوا۔ ذَرِيرَة جمع ذَرَائِر خوشبودار پاؤڈر، مہکیلا پاؤڈر۔ معطر غازہ یا ابٹن۔

ذُرِّی نسلی، اولاد کا، اولاد کے متعلق۔ ذُرِّية جمع ذُرِّيَات وذَرَارِی نسل، آل، اولاد، خلف، بچہ بچے۔

ذرا ۱۔ ذرَأَ - ذَرْأً اللهُ الخلقَ اللہ تعالٰی کا مخلوق پیدا کرنا۔ الشیءَ چیز کو زیادہ کرنا۔ ـــ الارضَ زمین میں کچھ بونا۔ و ذَرِئَ - ذَرَأً شَعْرُهٗ بالوں کا بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہونا۔ صفت۔ اَذْرَأُ مونث ذَرْءَاء: اَذْرَأَ اِذْرَاءً الدمعَ آنسو بہانا۔ الذَرْءُ تھوڑی سی چیز کہا جاتا ہے۔ يَكفيني ذَرْءٌ من خير مجھے تھوڑی سی نیکی کافی ہے۔ الذَرِیّ بکھیری یا بوئی ہوئی، حال ہی میں بیج بوئی ہوئی زمین۔ الذُرْأَة کنپٹی پر ظاہر ہونے والی بڑھاپے کی ابتدائی سفیدی۔

۲۔ اَذْرَأَ اِذْرَاءً تِ الناقةُ اونٹنی کا دودھ اتارنا۔ ـــ هٗ کو غضبناک کرنا، ڈرانا۔ ـــ هٗ بالشیءِ کو کسی چیز کا حریص یا شوقین بنانا۔ ـــ هٗ اِلی كذا کو پر مجبور کرنا۔ مُذْرِی: دودھ اتارنے والی اونٹنی۔

ذرب: ۱۔ ذَرِبَ - ذَرَبًا و ذَرَابَةً و ذُرُوبَةً السيفُ: تلوار کا تیز ہونا۔ صفت۔ ذَرِبٌ جمع ذُرُب۔ ـ الرجلُ آدمی کا عجز کے بعد فصیح ہونا۔ ذَرَبَ - ذَرْبًا و ذَرَّبَ و اَذْرَبَ السيفَ تلوار کو تیز کرنا۔ رجلٌ ذِرْبٌ زبان دراز آدمی۔ الذِرب جمع ذُرُب موچی کی رامی۔ ذَرِبُ اللسان: تیز زبان والا۔ لِسانٌ ذرِبٌ فصیح زبان۔ سيفٌ ذَرِبٌ: زہر میں بھگو کر تیز کی ہوئی تلوار۔ الذُرَاب: زہر۔ المِذْرَب: زبان۔

۲۔ ذَرِبَ - ذَرَبًا و ذَرَابَةً و ذُرُوبَةً الجرحُ: زخم کا خراب ہو کر پھیل جانا۔ ـــ تِ المعدةُ: معدہ کا خراب ہونا، ٹھیک ہونا۔ (ضد) اَذْرَبَ الرجلُ: تنگ گزارہ والا ہونا۔ الذَرَب جمع اَذْرَاب: لاعلاج بیماری، زنگ، زبان کی خرابی۔ لِسانٌ ذَرِبٌ فحش گو زبان۔ الذِرْب: (طب) جگر کی ایک بیماری گردن کا غدود۔ الذِرْبَة جمع ذِرَب غدود، تیز و بدزبان عورت۔ الذَرَبَی: عیب۔ الذَرَبَّی: مصیبت۔

۲۔ الأَذْرَبِیّ۔ اذربیجان کی طرف خلاف قیاس نسبت، اذربیجانی، آذربیجان کا۔

ذَرِبَ - ذَرَبًا تیز ہونا، قاطع ہونا۔

ذَرَب اسہال، تخمہ، دست کی بیماری۔

ذَرِب جمع ذُرُب تیز، قاطع۔ جُرحٌ ذرب لاعلاج زخم۔ متعدی یا سمی زخم۔

درح: ۱۔ ذَرَحَ - ذَرْحًا و ذَرَّحَ الشیءَ فی الریح: چیز کو ہوا میں اڑانا۔ ـ الطعامَ: کھانے میں زہر قاتل ڈالنا۔ ذَرَّحَ اللبنَ: دودھ میں پانی ملانا۔ الزَعفرانَ فی الماء پانی میں تھوڑا زعفران ملانا۔ الذَرَاح پانی ملا دودھ۔ لبنٌ او عسلٌ مُذَرَّح: دودھ یا شہد جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو۔ الذَرَارِيح واحد الذُرَّاح والذُرُّوح والذَرِيح والذُرَاح والذُرُوح والذُرَّح والذَرْوح والذَرِيحة ایک قسم کا زہر قاتل (ح) ایک پردار متعدد جوڑوں والا کیڑا۔

۲۔ الذَرِيحة جمع ذَرِيح ٹیلہ پہاڑی۔

ذُرَّاح جمع ذَرَارِيح ایک ہسپانوی مکھی، چھالے یا آبلے دار بھونرا۔

ذرع: ۱۔ ذَرَعَ - ذَرْعًا الثوبَ کپڑے کو ذراع سے ناپنا کہا جاتا ہے۔ فلان يَذْرَعُ المكانَ: فلاں شخص اس جگہ چہل قدمی کر رہا ہے۔ ـ هٗ: کا ہاتھ سے پیچھے سے گلا گھونٹنا۔ هٗ القیءُ: کو بے اختیار قے آجانا۔ و ذَرِعَ - ذَرَعًا عند الرجل والیه۔ سے کی سفارش کرنا۔ ذَرَّعَ الرجلَ: کا ہاتھ سے پیچھے سے گلا گھونٹنا۔ فی السباحة: تیرنے میں ہاتھ پھیلانا۔ فی المشی: چلنے میں بازوؤں کو حرکت دینا۔ الرجلُ: ڈراتے یا خوش خبری دیتے ہوئے بازوؤں کو بلند کرنا کہا جاتا ہے۔ ذَرَّعَ لی شيئًا من خبره: اس نے مجھے کچھ خبر دی۔ ذَرَّعَهٗ بيننا: کو ہمارے درمیان وسیلہ بنانا۔ ذَارَعَ الرجلَ کو ہاتھ سے ناپ کر کچھ بیچنا۔ صاحبَهٗ فَذَرَعَهٗ: اپنے ساتھی سے قدم بڑھانے میں مقابلہ کرنا اور غالب رہنا۔ اَذْرَعَ الشیءَ: کو ہاتھ سے پکڑنا۔ ـ ذراعيه من تحت الجُبَّة: جبہ کے نیچے سے دونوں بازوؤں کو نکالنا۔ ـ فی الكلام: بہت گفتگو کرنا۔ تَذَرَّعَ الشیءُ: لمبائی میں ہاتھ پیر پھیلنا۔ الشیءَ: کو ہاتھ سے ناپنا۔ ـ ت الابلُ الماءَ: اونٹوں کا بازوؤں تک پانی میں اتر جانا۔ ـــ فی الكلام بہت گفتگو کرنا۔ ـــ بذريعةٍ: وسیلہ بنانا۔ اِنْذَرَعَ: آگے بڑھنا۔ ـــ فی السير: کشادہ چلنا۔ تَذَارَعَ ت الابلُ المفازةَ: اونٹوں کا جنگل طے کرنا۔ اِسْتَذْرَعَ بالشیءِ: کسی چیز کے پیچھے چھپنا، کسی چیز کو ذریعہ بنانا۔ الذَرْع: (مص) ہاتھ کا پھیلاؤ کہا جاتا ہے۔ ابطرتُ فلانًا ذَرْعَهٗ میں نے فلاں شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف دی۔ اَبْطَرَنِی ذَرْعی: اس نے میری روزی کو بند کر کے مجھے لاغر کر دیا۔ ضِقتُ بالامرِ ذَرْعًا میں اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ هو واسعُ الذَرْع وہ قدرت والا ہے۔ هو خالی الذَرْع اس کا دل غموں اور فکروں سے خالی ہے۔ ذَرْعُهٗ كذا: اس کی لمبائی اتنی ہے۔ الذَرَع جمع ذِرْعان: (ح) جنگلی گائے کا بچھڑا۔ الذَرِع مونث ذَرِعَة جمع ذَرِعات: رات و دن پھرنے والا۔ الذَرِعات: تیز کشادہ قدموں والیاں۔ الذُرْعَة جمع ذُرَع: وسیلہ۔ الذِرَاع جمع اَذْرُع و ذُرْعان من الرَجُل (ع ا): کہنی سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک کا حصہ، بازو (مونث ہے کبھی مذکر بھی آتا ہے) طاقت، قوت۔ رجلٌ واسع الذِراع طاقت ور مرد۔ ضاق بالامر ذراعُهٗ: اس کی طاقت گھٹ گئی۔ هو لك علی حبلِ الذراع: وہ تمہارے لئے تیار اور حاضر ہے۔ جعلت امرك علی ذراعك: تم جو چاہو کرو۔ من البقر والغنم گائے اور بکری کا دست۔ من الخيل والابل: گھوڑے اور اونٹ کی پنڈلی کے باریک حصے سے اوپر کا حصہ۔ من المقاييس ایک پیمانہ جس کی لمبائی پچاس سے ستر میٹر تک ہوتی ہے۔ اولادُ ذِرَاعٍ و اولادُ الذَارِع: گدھے، کتے۔ الذَرُوَع: لمبے قدموں والا گھوڑا اور اونٹ۔ الذَرِيع: سفارش کرنے والا، تیز رفتار کہا جاتا ہے۔ موتٌ ذَرِيع پھیلنے یا جلد آنے والی موت۔ قتلٌ ذَرِيع: حد سے متجاوز قتل۔ الأَذْرَع کہا جاتا ہے۔ فتلهم اذرعَ قتل: نے ان کو بہت جلد اور بری طرح قتل کر دیا۔ المُذَرَّع: (مفع) جس کے سینہ پر نیزہ وغیرہ مارا گیا ہو اور اس کی ٹانگوں پر خون بہہ گیا ہو، آگے جانے والا گھوڑا۔ من الثيران: بیل جس کی پنڈلیوں پر سیاہ داغ ہوں۔ من الناس۔ جس کی ماں اس کے باپ سے زیادہ شریف النسب ہو۔ المَذَارِع والمَذَارِيع واحد مِذْرَاع: دیہات اور کھلے علاقہ کے مابین علاقے اور گاؤں۔ جانور کی ٹانگیں۔ الذَرِيعَة جمع ذَرَائِع: وسیلہ (کہا جاتا ہے) هو ذريعتی الی فلان: وہ فلاں شخص تک پہنچنے کا میرا وسیلہ ہے) وہ اونٹنی جس کے پیچھے شکاری بوقت شکار آڑ لیتا ہے یا چھپتا ہے۔

۲۔ ذَرَّعَ بالشیءِ: کا اقرار کرنا۔

۳۔ ذَارَعَهٗ: سے مل جانا۔ الذَرِع: مونث ذَرِعَة جمع

ذ عات. اچھا ساتھی۔

۴۔ الدرع جمع ذرعان لالچ۔ الدرع مونث ذرعة جمع ذرعات. زبان دراز۔ الأذرع فصیح تر، زیادہ فصیح۔

ⓒ ذرع۔ ذرعا ہ کو ناپنا، کا ناپ لینا۔ (فاصلہ) قطع کرنا، طے کرنا (ملک) عبور کرنا، پار کرنا، میں سے گزرنا، سفر کرنا۔ ۔ ۔ عہد کی خاطر کسی سے سفارش کرنا، بیچ میں پڑنا۔ تذرع بذریعه او بوسیله کوئی چارہ کار یا ذریعہ استعمال کرنا، صرف کرنا، کام میں لانا۔ ۔ کو بطور بہانہ۔ عذر استعمال کرنا۔ ب الی کو کوئی مقصد حاصل کرنے کے لئے بطور ذریعہ استعمال کرنا۔ اندرع آگے بڑھنا، بیچ میں پڑنا۔ ذرع ب کو کرنے کی طاقت، قابلیت، قدرت، لیاقت یا اہلیت۔ صاق ذرعاب وضاق عه ذرعا کے قابل نہ ہونا، کو برداشت نہ کرسکنا، سے بیزار ہونا، اکتا جانا، کے بارے میں بے چینی محسوس کرنا، بے آرام ہونا، ناخوش ہونا۔ ذراع (مونث ومذکر) جمع اذرع و ذرعان بازو، بازو کا اگلا حصہ، کہنی سے کلائی تک، جوڑنے والا ڈنڈا، ہاتھ، درع، دراع (۱۸ سے ۲۲ انچ تک لمبائی کا پیمانہ) ذریع تیز چلنے والا، تیز، سخت، تیزی سے پھیلنے والا، مکمل (موت) تباہ کن، سفارش کرنے والا، شفاعت کنندہ۔ ذریعة جمع ذرائع ذریعہ، مصلحت، چارہ کار، عذر، بہانہ۔

درف ا۔ ذرف۔ ذرفا و ذریفا و ذروفا و ذرفانا و تذرافا الدمع آنسو بہانا صفت ذریف و تذروف۔ ۔ ت العین دمعها آنکھ کا آنسو بہانا۔ ذرف تذریفا و تذرفة و تذرافا الدمع آنسو بہانا۔ استذرف الشیء کو قطرہ قطرہ ٹپکانا۔ الضرع تھن کا دودھ دوہے جانے اور قطرہ قطرہ ٹپکائے جانے کی دعوت دینا۔ المذارف واحد مذرف آنسو بہنے کی جگہیں۔ کہا جاتا ہے۔ سالت مذارف عینیه: اس کے آنسو نکل آئے، بہنے لگے۔ الذراف تیز رو۔

۲۔ ذرف۔ ذرفانا: سست چال سے چلنا۔

۳۔ ذرف تذریفا و تذرفة و تذرافاه الموت کو قریب الموت کر دینا۔ ہ الشیء: کو کسی چیز پر مطلع کرنا۔ علی الخمسین پچاس سال سے زیادہ کا ہونا۔

ⓒ ذرف۔ ذرفا و ذریفا و ذروفا و ذرافانا (آنسوؤں کا) بہنا۔ ہ (آنسو) بہانا (آنکھ کا) ذرف علی (کی عمر) سے بڑا ہونا۔ استذرف آنسو بہنے دینا۔

ذرق. ا۔ ذرق۔ ذرقا و اذرق الطائر پرندہ کا بیٹ کرنا۔ اذرق المکان جگہ کا ذرق (میتھی) چیتا گھاس اگانا۔ الذرق (مص) بیٹ۔ الذرق (ن) میتھی چیتا گھاس جو بعض طبی فوائد کی حامل ہے۔

۲۔ ذرقط الکلام بات منہ سے نکالنا، کہنا۔

ذرا ا۔ ذرا۔ ذروا ت الریح التراب ہوا کا مٹی اڑانا، بکھیرنا۔ الحنطة گیہوں کو ہوا میں صاف کرنا۔ الشیء چیز کا ہوا میں اڑنا۔ ـــ الظبی ہرن کا تیز دوڑنا۔ فوہ کے دانت گرنا۔ ذری ـــ ذریا ت الریح التراب ہوا کا مٹی کو اڑانا، بکھیرنا۔ ـــ الحنطة گیہوں کو ہوا میں صاف کرنا۔ ذری تذریة الریح التراب ہوا کا مٹی کو اڑانا۔ بکھیرنا۔ الحنطة گیہوں کو ہوا میں صاف کرنا۔ اذری اذراء ت الریح التراب ہوا کا مٹی کو اڑانا۔ بکھیرنا۔ الحنطة گیہوں کو ہوا میں صاف کرنا۔ ۔ الشیء چیز کو اس طرح گرانا جس طرح دانہ کو کاشت کے لئے گرایا جاتا ہے۔ (کہا جاتا ہے: اذراه الفرس من ظهره اس کو گھوڑے نے اپنی پیٹھ پر سے گرا دیا۔ ـــ ت العین دمعها آنکھ کا آنسو بہانا۔ تذری: ذری کا معنا لازم کا صیغہ۔ الذری حفاظت، پناہ، جاری یا گرایا ہوا آنسو۔ الذرة (ن) مکئی، غلہ کی ایک قسم۔ المذری والمذراة جمع مذار جیلی، دنگلی، دوشاخہ، پنجشاخہ۔ الذراوة ہوا میں اڑ کر گرا ہوا بھوسہ، ہوا میں اڑی ہوئی چیز۔

۲۔ ذرا۔ ذروا الی فلان کا قصد کرنا۔ تذری بالشیء کے ذریعے چھپنا۔ کہا جاتا ہے۔ تذری من برد الشمال بصحرة اس نے شمالی ہوا کی سردی سے چٹان کی پناہ لی۔ استذری به کی پناہ لینا، کے پاس پناہ لینا۔ بالشجرة: درخت کا سایہ لینا، کے سایہ میں چھپنا۔ الذری پناہ، ہر وہ شے جس سے چھپا جا سکے۔ (آپ کہتے ہیں: اتخذت الحائط ذری لی: میں نے دیوار کی پناہ لی۔ انا فی ذری فلان میں فلاں شخص کی پناہ میں ہوں) گھر کا صحن اور اس کے اطراف۔ آپ کہتے ہیں۔ هو کریم الذری وہ کریم الطبع ہے۔

۳۔ ذری الشاة: بکری کی اون کتر کر اس کی پیٹھ پر تھوڑی سی اون بطور نشانی چھوڑ دینا۔

۴۔ تذری المکان او الجبل کسی جگہ یا پہاڑ پر چڑھنا۔ الذروة چوٹی، اونچی جگہ، ہر چیز کا بلند حصہ، بڑھاپا۔ الذروة جمع ذری و ذری چوٹی، اونچی جگہ، ہر چیز کا بلند حصہ۔ المذروان (ع ا) سر کے دونوں پہلو، دونوں سرینوں کے ہر دو طرف۔ جاء ینفض مذرویه: وہ دھمکی دیتا ہوا آیا۔ مذروا القوس: کمان کے دونوں سرے۔

ذری دیکھو ذرا۔

ⓒ ذرا۔ ذروا ہ کو بکھیرنا، تتر بتر کرنا، منتشر کرنا (ہوا کا) گرد و غبار اڑانا۔ ہ (غلہ، اناج) پھٹکنا۔ ذری۔ ذریا بمعنی ذرا۔ ذری بمعنی ذرا۔ اذری بمعنی ذرا۔ نیز اذری ہ/ہ کو گرانا، پھینکنا۔ ادرت العین الدمع آنکھ کا آنسو بہانا۔ تذری پھٹکا جانا (غلہ یا اناج کا)۔ ہ پر چڑھنا۔ ب میں یا کے نیچے سایہ یا پناہ ڈھونڈنا، چاہنا، کے پاس پناہ لینا، بھاگ کر یا فرار ہو کر کے پاس جانا۔ استذری ب کی پناہ لینا، کے پاس پناہ لینا، کی حفاظت میں آنا، بھاگ کر یا فرار ہو کر کے پاس جانا۔ ذرة مکئی۔ ذرة شامی مکئی۔ درة صفراء مکئی۔ درة عویجة و ذرة بیضاء باجرہ۔ ذری حفاظت، پناہ۔ ذروة و ذروة: چوٹی، اوپر کا حصہ، انتہا، عروج، نقطہ عروج، منتہائے کمال، کمال، اوج کمال۔ مذری و مذراة جمع مذار جیلی، دنگلی، دوشاخہ، پنجشاخہ، اناج پھٹکنے کا آلہ۔

ذع. ا۔ الذعاع واحد ذعاعة فرقے۔

۲۔ ذعذع الشیء: کو پراگندہ کرنا۔ بکھیرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ذعذعته النوائب مصیبتوں نے اسے جھڑ جھڑا دیا۔ السر او الخبر بھید یا خبر کو پھیلانا۔ ت الریح الشجر ہوا کا درخت کو زور زور سے ہلانا۔ تذعذع یعنی بکھرنا، پھیلنا۔ الذعذاع چغل خور، وہ شخص جو بھید کو نہ چھپائے۔ ذعاذع النخل ردی کھجور کہا جاتا ہے۔ تفرقوا ذعاذع: وہ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، منتشر ہو گئے۔

دعب. تذعبته الجن: جن کا کسی کو خوفزدہ کرنا۔ انذعب الماء پانی کا دریا میں برابر بہتا رہنا۔ الذعبان: جوان بھیڑیا۔

ذعج: ذعج۔ ذعجاہ: کو زور سے دھکیلنا۔

ذعر: ا۔ ذعر۔ ذعراه۔ کو ڈرانا، خوفزدہ کرنا۔ ذعر: ڈرنا، خوفزدہ ہو جانا صفت مذعور۔ ذعر۔ ذعرا: حیران ہونا، دہشت زدہ ہونا۔ اذعره کو خوفزدہ کرنا۔ تذعر خوفزدہ ہونا۔ انذعر ڈرنا، گھبرانا۔ الذعر خوف، ڈر۔ امر ذعر: خوفناک معاملہ۔ الذاعر (فا) ڈرنے والا۔ الذعور خوف زدہ۔ تہمت اور بدکلامی سے ڈرنے والی عورت۔ الذعرة: (ح) ایک چھوٹا سا پرندہ جو اپنی دم بہت زیادہ ہلاتا رہتا

ہے۔اسے سکعکع بھی کہتے ہیں۔ ناقۃٌ مُدْعَرۃ دیوانی اونٹنی۔ سَنۃٌ دُعْرِیَّۃ سخت سال۔

۲۔ الدّاعِر خبیث۔ رجلٌ داعر و دُعَرۃٌ و دُعُرۃٌ اپنے اندر عیوب رکھنے والا آدمی۔ الدُّعْرۃ سرین۔

○ ذعر۔ ذعرًا ہ کوڈرانا، خوفزدہ کرنا، وحشت زدہ کرنا، میں دہشت پیدا کرنا، کو چونکانا، ڈرا کر بھگا دینا، گھبرا دینا، خطرہ سے آگاہ کرنا۔

ذعِرل سے ڈر جانا، خوفزدہ ہو جانا، چوکنا ہو جانا۔

ذعِرَ۔ ذعَراً ڈرنا، خوفزدہ ہونا، چوکنا ہونا، دبنا ہمت ٹوٹنا۔ اذْعَرہ کوڈرانا، خوفزدہ کرنا، وحشت زدہ کرنا، میں دہشت پیدا کرنا، کو چونکانا، ڈرا کر بھگا دیا، گھبرا دینا، خطرہ سے آگاہ کرنا۔ تذعّر و انذعر ڈرنا، خوفزدہ ہونا، چوکنا ہونا۔ ذُعْر خوف، ڈر، ہول دہشت، ہیبت، اشتباہ، بے بنیاد خوف۔ ذعر خوف ،ڈر، ہول، ہراس، خطرہ، اندیشہ حیرت، ہیبت، حیرانی، سراسیمگی۔

ذعط: ذعَطَ۔ ذعْطًا ہُ کو تیزی سے ذبح کرنا۔ موتٌ ذاعِطٌ و ذُعُوطٌ جلد آنے والی موت۔

ذعف: ذعَفَ۔ ذعْفاہُ کوزہر پلانا۔ ۔۔۔ الطعامَ کھانے میں زہر ڈالنا۔ ذعِفَ۔ ذعَفًا مرنا۔ اذْعَفَ ہٗ کو فوراً قتل کر ڈالنا۔ انذعف کا دل کٹنا، ٹوٹنا، جلد مر جانا، سانس پھولنا۔ الزُّعَف فوراً مار ڈالنے والا زہر کہا جاتا ہے۔ حَیَّۃٌ ذعَفُ اللُّعاب وہ زہریلا سانپ جس کا زہر فوراً مار ڈالے۔ الذُّعَاف فوراً مار ڈالنے والا زہر۔ موتٌ ذُعافٌ فوری موت، اچانک موت۔

ذعق: ذعَقَ۔ ذعْقاہُ کو پکارنا، کوڈرانا۔ داءٌ ذُعاقٌ مہلک بیماری۔

○ ذعَقَ۔ ذعْقاہ کو چیخ کر ڈرا دینا۔

ذعن: ذعِنَ۔ ذعَنًا لہ کا تابع و مطیع ہونا۔ اذْعَنَ لہ کا تابع و مطیع ہونا۔ بالحق حق کا اقرار کرنا۔ المِذْعان آسانی سے فرمانبردار ہونے والا۔

○ ذعِنَ۔ ذعْنًا و اذْعَنَ ل کی اطاعت اختیار کرنا، کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک جانا، کا مطیع ہونا، سے مغلوب ہونا، کا حکم ماننا۔ ۔ ل ب : کو کچھ خوشی سے دینا، رضا کارانہ کا حق ماننا، یا تسلیم کرنا۔

اذعان فرمانبرداری، اطاعت شعاری، خم پذیری، اثر پذیری، اطاعت، تعمیل، تعمیلِ ارشاد۔ مُذْعِن فرمانبردار، اطاعت شعار، خم پذیر، اثر پذیر، مطیع حکم کی بلاچون و چرا تعمیل کرنے والا، قابو میں آ جانے والا۔

مِذعان قابو میں آ جانے والا، خم پذیر، اثر پذیر، فرمانبردار، مطیع حکم کی بلاچوں و چرا تعمیل کرنے والا، اطاعت شعار، تربیت پذیر، بامروت، مدد کرنے والا، حکم کی تعمیل کرنے والا۔

ذف ا۔ ذفّ۔ ذفًّا و ذفَفًا و ذِفافًا علی الجریح زخمی کو مار ڈالنا۔ فی الامر کسی معاملہ میں جلد بازی سے کام لینا۔ ذفَّ الطاعونُ فلانًا طاعون کا کسی کو ہلاک کر دینا۔ ذفّف و ذافّ و اذفّ الجریحَ و ذافّ علیہ و لہٗ زخمی کو مار ڈالنا۔ الذُّفاف تیز رو، ہلکا، خفیف۔ جمع ذُفُف و اذِفّۃ زہر قاتل۔ الذفاف زخمی کو مار ڈالنا۔ (ذُفّ علی الجریح کا اسم) ۔۔۔ جمع ذُفُف و اذِفّۃ زہر قاتل۔ الذفیف و المُذفَّف ہلکا، تیز رو۔

۲۔ ذفّ۔ ذفیفًا و استذفّ اِسْتِذْفافًا الامرُ تیار ہونا، ممکن ہونا۔

۳۔ ذفّف جہاز راحلتِہٖ سواری کے بوجھ کو ہلکا کرنا۔ الذفّ تھوڑا سا پانی۔ الدفاف تھوڑی چیز کہا جاتا ہے۔ ماذاق ذِفافًا اس نے کچھ نہیں چکھا۔ و الذُّفاف جمع ذُفُف و اذِفّۃ تھوڑا پانی۔

دفر: ذفِرَ۔ ذفَراً الشیءُ کی بو ناخواہ خوش بو ہو یا بدبو۔ صفت: ذفِر و اذفَر) مونث ذفِرۃ و ذفراء۔ البتُ سبزی کا زیادہ ہونا۔ اِسْتذفَر بالامر کا پکا ارادہ کرنا۔ الذفَر و الذفَرۃ بو کی تیزی، بدبو۔ الذِفرۃ (ن) ایک قسم کی گھاس۔ الذِفری جمع ذِفریات و ذفاری و ذفار (ع) کان کے پیچھے کی ہڈی۔ الذَفراء (ن) ایک بدبو دار پودا۔ روضۃٌ مَذفورۃٌ چراگاہ جس میں بدبو دار پودوں کی کثرت ہو۔

○ ذفَر تیز بو، بدبو، سڑاند، عفونت۔

ذقن: ذقَنَ۔ ذقْنًاہُ کی ٹھوڑی پر مارنا۔ وذقّن علی یدہ او عصاہ ٹھوڑی اپنے ہاتھ یا لاٹھی پر لگانا، ٹکانا۔ ذاقنَ مُذاقنۃً ہٗ کو تنگ کرنا۔ الذقَن والذِقن جمع اذقان (ع ا) ٹھوڑی۔ ضرب المثل ہے۔ مُثقَلٌ اِستعانَ بذقنہ یہ اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو اپنے سے کمتر سے مدد لے۔ الذقُن بہت بوڑھا۔ جمع اذقان ٹھوڑی۔ الذاقنۃ ٹیٹوا (مو): سارنگی کے صندوق کے آخر میں لکڑی کا ٹکڑا جس پر ٹھوڑی بجاتے وقت ٹکائی جاتی ہے، حلقوم کے کنارے پر کا ابھرا ہوا حصہ۔ الاذقن مونث ذقناء جمع ذُقن لمبی ٹھوڑی والا۔

○ ذقَن و ذِقن جمع اذقان و ذقون ٹھوڑی ٹھڈی۔

ذقَن مونث جمع ذُقون داڑھی، گل مچھے۔ ذقن الشیخ اُفسنتین، ایک قسم کی تلخ بوٹی۔ خرّوا لاذقانہم انہوں نے سجدہ کیا، وہ منہ کے بل گر گئے۔ غرق فی العمل حتی الذقن وہ کام میں از سرتا پا ڈوبا ہوا ہے۔ اس پر کام کی بھرمار ہے۔ ضحِکَ علی ذقنہ جمع ضحکوا علی ذقونہم کو بے وقوف بنانا سے مذاق کرنا۔ ضحِکَ فی ذقنہ کی ہنسی اڑانا۔

ذکر ا۔ ذکرَ۔ ذِکراً و تذکاراً اللّٰہَ اللہ تعالیٰ کی پاکی و بزرگی بیان کرنا۔ اسمَ اللّٰہِ اللہ کا نام لینا۔ الشیءَ کو یاد کرنا۔ لفلان حدیثًا سے کسی بات کا ذکر کرنا، کوئی بات کہنا۔ الامرَ کو اچھی طرح سمجھنا۔ ۔ حقَّ فلان کے حق کی حفاظت کرنا اور اس کو ضائع نہ کرنا۔ ذکَّرہُ الشیءَ و بالشیءِ کو کچھ یاد دلانا۔ القومَ لوگوں کو وعظ کرنا۔ ذاکرَ مُذاکرۃً فی امرٍ سے کسی بات پر گفتگو کرنا۔ اذکرہُ الشیءَ کو کچھ یاد دلانا۔ تذکَّر الشیءَ کو یاد کرنا۔ تذاکرو الشیءَ: کو یاد کرنا۔ ۔۔ فی الامرِ کسی معاملہ پر بات چیت کرنا۔ اذّکرَ و اِدّکرَ و اِذدکرَ الشیءَ کو یاد کرنا۔ اِستذکرَ الشیءَ: کو یاد کرنا، پڑھنا، حفظ کرنا۔ ۔ الرجلَ: کی انگلی پر ڈورا باندھنا تاکہ اس کو اس کی حاجت یاد آ جائے۔ الذُّکر یادداشت کہا جاتا ہے۔ واجعلہ منّی علی ذُکرٍ: میں اسے نہیں بھولوں گا۔ الذِکر جمع اذکار: نماز و دعاء، شہرت کہا جاتا ہے۔ لہٗ ذِکرٌ فی الناس اسکی لوگوں میں شہرت ہے۔ ثناء شرف۔ من الرجال مضبوط غیور اور بہادر آدمی۔ ذِکرُ المیّتِ: مرنے والے کا نام لوگوں کی زبان پر جاری رہنا۔ الحقّ چک۔ الذکِر والذکور و الذِکّیر بہت یاد کرنے والا (اسی سے ضرب المثل ہے: کُن ذکوراً اذا کنتَ کذوباً جھوٹ بولتے ہو تو یاد رکھنے والا بنو)، اچھے حافظے والا، عمدہ یادداشت والا۔ الذکیر بہت یاد کرنے والا۔ من الرجال: خوددار آدمی۔ یومٌ مُذکِرٌ سخت ہولناک دن۔ طریقٌ مُذکِر خوفناک راستہ۔ داھیۃٌ مُذکِر سخت مصیبت۔ الذِکرۃ: یاد۔ الذِکری: یاد دہانی، زبانی یا قلبی ذکر۔ الذُکرۃ شہرت۔ رجلٌ ذکّار اللہ کو بہت یاد کرنے والا آدمی۔ مُذکَّر خوفناک۔ یومٌ مُذکَّر: ہولناک دن۔ الذاکرۃ ذاکر کا مونث۔ قوّتِ حافظہ۔ التذکرۃ جمع تذاکِر وہ چیز جس سے حاجت یاد آ جائے، سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ ٹکٹ (سفر کا)۔ المُذکِرۃ جمع مُذکرات ڈائری۔

۲۔ ذَکَّرَ الکلمة کلمہ کو مذکر لانا۔ اَذْکَرَتِ المرأة عورت کا اولاد۔ نرینہ جننا صفت۔ مُذْکِر، الذَکَر جمع ذُکُور و ذُکُورَة و ذُکْرَان و ذِکَار و ذِکَارَة و ذِکَرَة نر، مرد۔ من النخل وہ کھجور جو پھل نہ لائے۔ اِمْرَأة ذَکِرَة مرد کے مشابہ عورت۔ الذُکُورة مردی، مردانگی۔ المُذْکِر نرینہ اولاد جننے والی۔ مُذَکَّر نر۔ المُذَکَّرَة و المُتَذَکِّرَة مرد کے مشابہ عورت۔ المذکار لڑکے جننے والی عورت، مرد جس کی بیوی لڑکے جنے۔

۳۔ الذَکَر من القول جمع ذُکُور مضبوط پختہ بات۔ من المطر موسلادھار بارش۔ الذَکَر جمع ذُکُور و ذُکُورَة و ذُکْرَان و ذِکَار و ذِکَارَة و ذِکَرَة من الحدید اچھا سخت لوہا۔ من النحاس سخت تانبا جو کوٹا نہ جا سکے۔ سَیْفٌ ذَکَرٌ وہ تلوار جس کی دھار عمدہ لوہے کی اور پشت گھٹیا لوہے کی ہو۔ مطر ذَکَرٌ تیز بارش، سخت بارش۔ ذُکُورُ البقل وہ ترکاریاں جو سخت اور تلخ ذائقہ ہو گئی ہوں اسکی ضد احرار ہے۔ الذَکِیر من الحدید اچھا سخت لوہا۔ الذُکْرَة کلہاڑی وغیرہ کے سرے پر لگا ہوا فولاد کا ٹکڑا۔ ذُکْرَةُ السیف تلوار کی دھار۔ المُذَکَّر من السیوف سیف براں۔ ارضٌ مِذْکار زمین جو سخت اور تلخ ذائقہ ترکاریاں اگائے۔

ن ذَکَرَ ذُکْراً و تَذْکَاراً ہ کو یاد کرنا، ذہن میں رکھنا، کے امکان پر غور کرنا، کا تصور کرنا، کو ذہن میں رکھنا، کو ذہن میں لانا، یاد کرنا۔ ذِکْراً ہ کے بارے میں بات کرنا، گفتگو کرنا، کا نام لینا، کا ذکر کرنا، کا حوالہ دینا، سے اقتباس پیش کرنا، کو بیان کرنا، کی صراحت کرنا، کو بتانا، ظاہر کرنا (حقائق، امور معلومہ) دینا، کو عمل طور پر بیان کرنا۔ ہ ل: کوئی بات کسی کو بتانا۔ تقدم یُذْکَر قابل لحاظ یا توجہ ترقی یا پیش رفت۔ لا یُذْکَرُ ناقابل لحاظ، ناقابل غور، ناقابل ذکر۔ ذَکَرَہُ بخیرٍ (یا بالخیر): کی خوشگوار یادیں رکھنا، کا اچھے لفظوں میں ذکر کرنا۔ ذکرہ بشر: کی ناخوشگوار یادیں رکھنا۔ برے طریقہ سے ذکر کرنا۔ ذَکَّرہ ب کو کی یاد دہانی کرانا، پر کوئی چیز واضح کرنا، کو واضح کرنا کہ، کو کی طرف متوجہ کرنا، کی توجہ کسی بات کی طرف مبذول کرنا۔ ہ: کسی لفظ کو مذکر بنانا۔ ذَاکَرَہ سے بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا، سے صلاح مشورہ یا کسی معاملہ پر بحث کے لئے ملاقات کرنا، سے صلاح کرنا، مشورہ کرنا، صلاح مشورہ کرنا۔ ہ سبق وغیرہ، یاد کرنا۔ ذاکر دروسہٗ: اپنے اسباق کا مطالعہ کرنا، اپنا ہوم ورک کرنا۔ اَذْکَرَہ ہ: کو کی یاد دہانی کرانا، کو کچھ یاد دلانا۔ تَذَکَّرَ ہ کو کچھ یاد آنا، کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، کا خیال یا تصور ذہن میں رکھنا۔ تَذَاکَرَ ہ ایک دوسرے کو کچھ یاد دلانا، کے متعلق ایک یا دوسرے کی یاد تازہ کرنا۔ باہم مشورہ کرنا، بات چیت کرنا۔ اِذَّکَرَ بمعنی تَذَکَّرَ۔ اِسْتَذْکَرَ ہ کو یاد کرنا، ذہن میں رکھنا، کو یاد رکھنا، یاد سے جاننا۔ ذِکْر یاد، یادداشت، حافظہ، یادگار، شہرت، ساکھ، ذکر کرنا، بیان کرنا، بتانا، کہنا (کی) بات دہرانا (کا) قول پیش کرنا، کا حوالہ دینا، حوالہ پیش کرنا، حوالہ، رپورٹ، سرگذشت، کیفیت، تفصیل، حکایت، کہانی، روایت، تذکرہ، بیان، اللہ تعالیٰ سے دعا، التجا، اللہ کے نام کا ذکر (صوفیا کی اصطلاح) اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کچھ الفاظ کا ورد، اکثر رقص اور موسیقی کے ساتھ۔ عَلَی ذِکْرِ دربارہ کے سلسلہ میں۔ وعلی ذکرِ ذلك کے بارے میں، ضمناً، اس سلسلہ میں۔ الذِکر الحکیم قرآن مجید۔ سالف الذکر مذکورہ بالا، بحولہ بالا۔ سعیدُ الذکر مرحوم، آنجہانی، مبارک یاد والا۔ اَشَادَ بِذِکْرِہ کی تعریف کرنا، کو سراہنا، کو خراج تحسین پیش کرنا۔ مازال علی ذکرٍ من اسے ابھی تک یاد ہے، وہ ابھی تک یاد کر سکتا ہے۔ ذَکَر جمع ذُکُور و ذُکُورَة و ذُکْرَان: نر، جمع ذکور: عضو تناسل۔ ذُکْرَة شہرت، ساکھ۔ ذِکْرَی جمع ذِکْرَیَات یاد، یادداشت، حافظہ۔ ذکریات: آپ بیتی، سرگذشت، تذکرہ۔ ذَکِیر: فولاد۔ تَذْکَار و تِذْکَار یاد، یاد دہانی، یادگار، نشانی، یادگار دن۔ تذکار جمیع القدیسین: کل ولیوں کا دن (عیسائیت میں) تَذْکَارِی و تِذْکَارِی: یادگاری، یاد دلانے والا۔ تَذْکِرَة: یادداشت، یادگار، نشانی۔ تَذْکِرَة: (زیادہ تر تلفظ تَذْکَرہ) جمع تَذَاکِر: پیغام، نوٹ، سلپ، کاغذ، پرمٹ، پاس، کارڈ، ٹکٹ، داخلہ کا ٹکٹ۔ تذکرة برید: پوسٹ کارڈ۔ تذکرةُ اِثباتِ الشخصیة: شناختی کارڈ۔ تذکرة ذَهَاب و ایاب: واپسی ٹکٹ۔ تذکرةُ الرصیف: پلیٹ فارم ٹکٹ۔ تذکرة اشتراك: چندہ کا ٹکٹ۔ تذکرةٌ طبیّة: طبی نسخہ۔ تذکرةُ مرور: پرمٹ پاس، پاس پورٹ۔ تذکرة نفوس: شناختی کارڈ (شام میں) (بطاقة شخصیة) شناختی کارڈ۔ تذکرة الانتخاب: مخفی رائے دہی، پوشیدہ رائے دہی، پوشیدہ رائے شماری۔ تَذْکَرجی و تَذْکَرِی: ٹکٹ فروش، ٹکٹ کلرک، کنڈکٹر۔ تَذْکِیرٌ ب کی یاد دلانا۔ تَذْکِیر: یادداشت، یادگار، نشانی، حمل، بار آوری، زرخیز بنانا، زیرہ گل چھڑکنا۔ مُذَاکَرَة جمع مذاکرات: بات چیت، گفتگو، تبادلہ خیال، صلاح مشورہ، مشاورت، غور و خوض، بحث، مباحثہ، بحث و تمحیص، یاد کرنا، رٹا لگانا، رٹنا، مطالعہ۔ تَذَکَّر: یاد۔ اِستذکار: رٹا لگانا، رٹنا، حفظ کرنا۔ ذاکرة: یادداشت، حافظہ۔ مَذْکُور: ذکر کیا ہوا، کہا ہوا، مذکورہ بالا، مشہور، نامی گرامی۔ لم یکن شیئاً مذکوراً: اسکی کوئی اہمیت نہ تھی، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مُذَکَّر: مُذَکَّر مُذَکِّرَة جمع مُذَکِّرَات: یادداشت، نوٹ، ریمارک، نوٹ بک، میمو، میمورینڈم، محضر، محضر نامہ، ڈپلومیٹک نوٹ، فرمان، ڈگری، رسالہ، مقالہ (فاضل انجمن کی) رپورٹ (جمع) آپ بیتی، سرگذشت، تذکرہ۔ مُذَکِّرَة الاتہام فرد جرم۔ مُذَکِّرَة الجَلْب پروانہ حاضری ملزم۔ مُذَکِّرَة شِفَاهِیة: زبانی نوٹ۔

ذکا: ا۔ ذَکَا۔ ذُکُوّاً و ذَکًا و ذَکَاءَتِ النارُ: آگ کا شدت سے بھڑک پڑنا۔ ت الشمسُ: سورج کی تمازت کا تیز ہو جانا۔ ت الحربُ: لڑائی کا تیز و شدید ہو جانا۔ ذَکَاءُ المسكُ: مشک کی خوشبو مہکنا صفت۔ ذَکِیّ ذَکَّی النارَ: آگ جلانا۔ الحربَ: جنگ کی آگ کو بھڑکانا۔ اَذْکَی النارَ: آگ جلانا۔ الحربَ: جنگ کی آگ بھڑکانا۔ کہا جاتا ہے۔ اَذْکَی علیہ العیونَ: اس نے اس پر جاسوس بھیجے۔ اِسْتَذْکَی اِسْتِذْکَاءُ النارَ: آگ جلانا۔ ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ ت الشمسُ: آفتاب کی تمازت کا تیز ہونا۔ تِ الحربُ: جنگ کی آگ کا بھڑکنا۔ الذَکَا: دہکتا ہوا انگارہ۔ ذُکَاءُ: سورج کا اسم علم جو غیر منصرف ہے کہا جاتا ہے۔ طَلَعَتْ ذُکَاءُ: آفتاب طلوع ہوا۔ اِبنُ ذُکَاء: صبح۔ الذُکْوَة و الذُکْیَة: ایندھن آگ سلگانے والی چیز۔

۲۔ ذَکَا۔ ذَکًا و ذَکَاةً الذبیحةَ: جانور کو ذبح کرنا۔ ذَکَّی الذبیحةَ: جانور کو ذبح کرنا۔ الذَکَا و الذَکَاة: ذبح۔

۳۔ ذَکَی۔ وِ ذَکِیَ۔ رَ ذَکُوَ۔ ذَکَاء: تیز فہم ہونا صفت۔ ذَکِیّ مونث ذَکِیَّة جمع اَذْکِیَاء۔ الذَکَاء: (مص) ذہن کی تیزی، تیز فہمی۔

۴۔ ذَکَّی الرجلُ: سن رسیدہ ہونا اور بھاری بدن ہونا۔ المُذَکِّی و المُذَکِّیّ من الخیل جمع مَذَاکٍ و مُذَکِّیَات: وہ گھوڑا جو عمر میں پورا اور طاقت میں کامل ہو (اسی سے ضرب المثل ہے جَرْیُ المُذَکِّیَات غِلَاب: پوری عمر اور طاقت کے گھوڑوں کا دوڑنا

دوسرے گھوڑوں کی دوڑ پر غالب آتا ہے۔ من السحاب بہت برسنے والا بادل۔

ذکا ـ ذُکُوًّا و ذَکًا و ذَکَاءً (آگ کا) بھڑکنا، شعلہ زن ہونا، تیز بو کا نکلنا۔ ذَکِیَ ـ ذَکَاءً تیز فہم ہونا، دانشمند ہونا، ہوشیار ہونا، سیانا ہونا۔ ذَکَّی و اَذْکَی ہ (آگ) کو بھڑکانا، (کوئی چیز) جلانا، سلگانا، بھڑکانا۔ ذَکَّی کسی جانور کی قربانی کرنا، قربانی دینا۔ استذکی بمعنی ذکا، ذکا زیرکی، فراست۔ تیز فہمی، دقیقہ رسی، ذہانت، ہوشیاری، تابانی، آب و تاب، چمک دمک۔ ذُکا سورج۔ ذَکِیٌّ جمع اَذْکِیاء منور، تاباں، روشن، چمکدار، ہوشیار، عاقل، فہم، دانشمند، تیز فہم، خوشبو دار، معطر، مہکیلا، خوش ذائقہ، مزیدار، لذیذ، مرغوب، خوشگوار، اشتہا خیز، چٹ پٹا۔

ذل ا۔ ذَلَّ ـ ذُلًّا و ذِلَّةً و مَذَلَّةً ذلیل ہونا، خوار و رسوا ہونا صفت ذلیل و ذُلَّان جمع اَذِلَّاء و اَذِلَّة و ذِلال۔ ذُلًّا و ذِلًّا عیرٌ اونٹ کا با آسانی رام ہونا صفت ذَلُول جمع اَذِلَّة و ذُلُل کہا جاتا ہے۔ ذلّت له القوافی اس پر قافیوں کی آمد ہوئی۔ ذَلَّلَ ہ کو ذلیل کرنا۔ اَذَلَّ ہٗ کو ذلیل کرنا، کو ذلیل پانا۔ الرجلُ سزاوار ذلت ہونا، کے ساتھیوں کا ذلیل ہونا۔ تَذَلَّلَ لہ سے عاجزی و فروتنی کرنا۔ اِسْتَذَلَّ ہٗ: کو ذلیل کرنا، کو ذلیل پانا۔ الذُّلّ (مص) تابع داری، سہولت، نرمی، تواضع، کہا جاتا ہے۔ ذُلٌّ ذَلِیلٌ ذلیل کرنے والی تواضع یا بری تواضع یا تابعداری۔ الذِّلّ (مص) رحمت، نرمی۔ ذِلّ الطریق جمع اَذْلال ٹوٹی پھوٹی سڑک کہا جاتا ہے۔ دَعْهُ علی اَذْلالِه اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ امورُ اللّٰهِ جاریة اذلالها او علی اذلالها اللہ تعالیٰ کے امور حسب مواقع جاری ہیں۔ جاء علی اذلالِه وہ اپنے طریقے پر آیا۔ اَذلالُ الناس سب سے آخری یا ادنیٰ لوگ۔ طریقٌ مُذَلَّل پختہ چلتی ہوئی سڑک۔ شجرةٌ مُذَلَّلَة وہ درخت جس کو ہر شخص پا سکے۔ الذُّلُولِیُّ نرم و خوش اخلاق۔

۲۔ ذُلِّلَ الکرمُ انگور کے خوشوں کو لٹکایا جانا یا برابر کیا جانا۔ النخلُ درخت خرما کے خوشوں کو لکڑی پر رکھا جانا۔

۳۔ تَذَلْذَلَ الشیءُ ڈھیلا اور مضطرب ہونا۔ الذُّلْذُل والذِّلْذِل جمع ذَلاذِل کپڑے کا دامن کہا جاتا ہے۔ شَمِّرْ ذلاذِلَكَ لهذا الأمر کا دامن اٹھا۔ ذَلاذِل و ذُلَیذِلاتُ الناس سب سے آخری لوگ۔

ذَلَّ ـ ذُلًّا و ذُلًّا و ذَلالَةً و ذِلَّةً و مَذَلَّةً ذلیل ہونا، عاجز ہونا، خاکسار ہونا، حقیر ہونا، قابل یا لائق مذمت ہونا۔ ذَلَّلَ ہ/ہ کو نیچا کرنا، بے قدر کرنا، نگاہوں سے گرانا، ذلیل کرنا، نیچا دکھانا، شرمندہ کرنا، چھوٹے درجے پر لانا۔ ہ: کو محکوم بنانا، زیر نگیں کرنا، قابو میں کرنا، کا زور توڑنا، کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، شکست دینا، فتح کرنا۔ ـــ ہ (مشکلات، رکاوٹوں) پر قابو پانا، کو دور کرنا۔ اَذَلَّ ہ/ہ: بمعنی ذَلَّلَ ہ/ہ نیز اَذَلَّ ہ/ہ کو نیچا کرنا، کا زور توڑنا، مغلوب کرنا، شکست دینا، فتح کرنا۔ تَذَلَّلَ لِ/الی کے سامنے خود کو نیچا کرنا، عاجزی کرنا، لجاجت کرنا۔ ـــ عاجز ہونا، خاکسار ہونا، خوشامدی ہونا، چاپلوس ہونا۔ اِسْتَذَلَّ ہ کو نیچا پایا، ذلیل، کمینہ، سفلہ، خیال کرنا، کے متعلق بری رائے رکھنا، کی عزت نہ کرنا، کی ہنسی اڑانا، کی تحقیر کرنا، کو حقارت سے دیکھنا، پر بری طرح تنقید کرنا۔ ذُلّ انکسار، عجز و نیاز، گراوٹ، پستی، غیر اہم ہونا، رسوائی، فضیحت، کھلی بے عزتی، ذلت، شرمندگی، خواری، تذلیل، شرمساری، عاجزی، عجز و انکسار، انکساری۔ ذِلَّة گراوٹ، پستی، کمینہ پن، ذلت، خباثت، سیاہ کاری، بدکاری، فروتنی، انکساری، خوشامد، چاپلوسی، تابعداری، اطاعت شعاری، فرمانبرداری۔ ذَلِیل جمع اَذِلَّاء و اَذِلَّة: حقیر، ذلیل، کمینہ، پست، گرا ہوا، بازاری، سفلہ، پاجی، خاکسار، مسکین، عاجز، نیازمند، قابل نفرت، فرومایہ، خوار، فرمانبردار، اطاعت شعار، سکھانے یا سدھانے کے قابل، قابو میں آ جانے والا، جھکنے والا، اثر پذیر، اطاعت پذیر، خوشامدی، چاپلوس، کاسہ لیس، غلامانہ، عاجزی کرنے والا، لجاجت کرنے والا۔ ذَلُول جمع ذُلُل سکھانے یا سدھانے کے قابل، فرمانبردار، اطاعت شعار۔ شریف (جانور) سواری کی اونٹنی۔ مَذَلَّة عاجزی، انکساری، بے زبانی، نرم دلی، حلم، فروتنی، تذلیل، اہانت، ذلت۔ تَذْلِیل بے وقری، مذمت، تحقیر، سبکی رسوائی، ذلت، توہین، تذلیل، مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنا، ان پر قابو پانا۔ اِذْلال رسوائی، ذلت، سبکی، بے قدری، ذلت، خفت، تذلیل، اہانت۔ تَذَلُّل اپنی آپ تذلیل، بے جا انکسار۔ ذُلْذُل جمع ذَلاذِل کسی چیز کا سب سے نچلا حصہ۔ سنجاف، مغزی، گوٹ، جھالر، حاشیہ، کنارہ، پوشاک کا دامن۔ ذلاذل الناس بھیڑ، ازدحام، جم غفیر، بے ترتیب مجمع، نیچ ذات کے لوگ۔

ذلغ: ذَلَغَ ـ ذَلْغًا کے ہونٹ پھٹنا۔ صفت۔ اَذْلَغَ الطعامَ کھانا کھانا۔ ذَلِغَ ـ ذَلَغًا شفتهُ کا ہونٹ الٹنا صفت۔ اَذْلَغ

ذلف: ذَلِفَ ـ ذَلَفًا الانفُ ناک چھوٹی ہونا اور اس کے بانسے کا ہموار ہونا، ایسی ناک والے کو اَذْلَف مؤنث ذَلْفاء جمع ذُلْف کہتے ہیں۔

اَذْلَف مؤنث ذَلْفاء جمع ذُلْف چھوٹی اور عمدہ پھیلی ہوئی ناک والا۔

ذلق ا۔ ذَلَقَ ـ ذَلْقًا اللسانُ زبان کا فصیح و تیز ہونا۔ و ذَلَّقَ و اَذْلَقَ السکینَ چھری تیز کرنا۔ ذَلِقَ ـ ذَلَقًا السیفُ او اللسانُ تلوار یا زبان کا تیز ہونا۔ ذَلُقَ ـ ذَلاقَةً اللسانُ زبان کا فصیح ہونا۔ اِنْذَلَقَ تیز ہونا۔ الذَّلْق والذَّلَق والذُّلُق والذَّلِق والذَّلِیق بلیغ و فصیح۔ من الالسنة او الاسنة تیز زبان یا بھالا۔ کہا جاتا ہے۔ لسانٌ ذَلِق طَلِقٌ و ذُلُقٌ طُلُقٌ و ذَلْقٌ طَلْقٌ تیز اور روانی والی زبان۔ ذَلْقُ الشیء دھار، نوک تیزی۔ ذَلْق اللسان زبان کا کنارہ۔ ـــ السهمِ تیر کا باریک حصہ۔ ذَلْقَةُ الشیء کسی شے کی تیزی۔ الاَذْلَق من الالسنة او الاسنة جمع ذُلْق تیز زبان یا بھالا۔ الاَحْرُفُ الذُّلُقُ و احرف الذَّلاقَة یہ چھ حروف ہیں جن میں سے تین شفهی ہیں جو ب، ف، م اور ذلقیہ کہلاتے ہیں جبکہ باقی تین جن کا مخرج نوک زبان ہے یہ ل، ر، اور "ن" ہیں اور ذَوْلَقِیَّة: کہلاتے ہیں۔ الذَّوْلَق من کل شیء دھار، نوک، تیزی۔ ذولقُ اللسان زبان کی نوک۔ الاَحْرُفُ الذولقیة وہ حروف جن کا مخرج زبان کی نوک ہے۔ المُذَلَّق تیز کنارہ والا۔

۲۔ ذَلَقَ ـ ذَلْقًا و اَذْلَقَ الطائرُ پرندہ کا بیٹ کرنا۔

۳۔ ذَلِقَ ـ ذَلَقًا السراجُ چراغ کا روشن ہونا۔

۴۔ ذَلَقَ ـ ذَلْقًا ہٗ: کو کمزور کرنا، دبلا کرنا۔ ذَلِقَ ـ ذَلَقًا الرجلُ بے آرام ہونا۔ ـــ من العطش پیاس سے قریب المرگ ہونا۔ ذَلَّقَ ہٗ کو کمزور اور دبلا کرنا۔ ـــ الضبَّ گوہ کو نکالنے کے لئے اس کے بل میں پانی ڈالنا۔ اَذْلَقَ ہ کو کمزور و دبلا کرنا، کو پریشان کرنا، بے آرام کرنا۔

۵۔ المُذَلَّق پانی ملا دودھ۔

ذَلْق نوک، سرا، زبان کی نوک۔ ذَلْق و ذَلِق و ذَلِیق: فصیح، چرب زبان، طرار، روانی والی (زبان) ذَلاقَة: فصاحت، خوش بیانی روانی (زبان کی) چرب زبانی۔

ذلی: ذَلَی ـ ذَلْیًا الرُّطَبَ تر کھجور چننا۔ تَذَلَّی: تواضع و عاجزی کرنا۔ اِنْذَلَی الرطبُ تر کھجور کا چنا جانا۔ اِذْلَوْلَی ذلیل ہونا، تابع ہونا، چھپ کر تیزی سے نکل جانا۔

ذم ا۔ ذَمَّ ـ ذَمًّا مَذَمَّةً ہٗ: کی برائی کرنا، عیب گیری کرنا۔

ذمّمَ هُ کی مذمت کرنے میں مبالغہ کرنا۔ ذامَ عیشہٗ قناعت کے ساتھ گزارہ کرنا۔ اذمَّ الرجلُ قابل مذمت فعل کرنا۔ هُ کو قابل مذمت پانا۔ بهم کو حقیر جاننا، یا مذموم حالت میں چھوڑنا۔ تذامَّ القومُ ایک دوسرے کی مذمت کرنا۔ تذمّمَ منہ سے بچنا، اور اس کو اپنے لئے ننگ و عار سمجھنا کہا جاتا ہے۔ انی اتذمّمُ من القوم میں اس قوم سے کنارہ کش ہو کر دوسری قوم کی طرف چلا جاؤں گا۔ لو لم اترك الكذب تأثّماً لتركته تذمّماً اگر میں جھوٹ کو گناہ سے بچنے کے لئے نہ چھوڑتا تو مذمت سے بچنے کے لئے چھوڑ دیتا۔ استذمّ قابل مذمت کام کرنا۔ ۔ الی فلان کے ساتھ قابل مذمت فعل کرنا۔ الذمّ (مص) جمع ذُمُوم مذمت، مذموم، برائی، عیب کہا جاتا ہے۔ افعل کذا وحلاك ذم ایسا کرو تو تم ملامت سے بری ہو گے۔ الذمیم جمع ذِمام برا۔ امرٌ مُذِمّ شرمناک کام۔ المَذمّة (مص) عیب جوئی، الزام تراشی کہا جاتا ہے۔ قضی مَذمّتَهٗ او مَذِمّتَهٗ اس نے مذمت کے خوف سے اس سے اچھا سلوک کیا۔ المُذمَّم مذموم۔

۲۔ ذمَّ ُ ذمًّا و مَذمّةً الانفُ ناک سے ریزش بہنا۔ الذمیم جمع ذِمام بیماری زدہ، بدمزہ پانی۔

۳۔ اذمَّ هُ کو پناہ دیکر اپنی حفاظت میں لے لینا۔ علیہ کے لئے امان لینا۔ استذمّ بہ سے پناہ کا خواہاں ہونا۔ الذمّ کفالت۔ الذِمّة جمع ذِمَم امان، عہد، کفالت۔ الذمّة جمع ذِمَم امان، عہد، ذمہ داری کہا جاتا ہے۔ فی ذمّتی کذا یہ میری ذمہ داری میں ہے۔ انت فی ذمة الله تم اللہ کی امان و پناہ میں ہو۔ اهلُ الذمّة دار الاسلام میں جزیہ دیکر رہنے والے غیر مسلم لوگ، ایک دوسرے سے معاہدہ کرنے والے کہا جاتا ہے۔ هُم ذِمّة ان کا ایک دوسرے سے معاہدہ ہے۔ الذمّی مسلمان بادشاہ کی غیر مسلم جزیہ دینے والی رعایا۔ الذمام جمع اذمّة حرمت حق المَذمّة حق، حرمت۔ اسی سے ہے۔ هو یحفظ مَذمّتهٗ وہ اپنے حق و عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اذهب مَذمّتهٗ بشیء اس کو کچھ دے کر حق کی ادائیگی کرو۔ الذَمامة و الذِمامة کفالت۔ الذمامات حقوق و حرمتیں۔

۴۔ اذمَّ المکانُ جگہ کا قحط زدہ اور بے برکت ہونا۔ بئرٌ ذَمّة کم پانی والا کنواں، زیادہ پانی والا کنواں (ضد) بئر ذمیمہ جمع ذِمام کم پانی والا کنواں، زیادہ پانی والا کنواں (ضد) الذمام بقیہ۔

۵۔ المذم ہلاک ہونے والا، بہت دبلا کہا جاتا ہے۔

رجل ذِمّ دبلا مرد۔ المُذِمّ بے حرکت۔ الذمیم جمع ذِمام سطح تک بلند کنواں، شبنم۔

۶۔ ذمذمَ الرجلُ تھوڑا عطیہ دینا۔

○ ذمّ ُ ذمًّا و مَذمّةً ہ کی عیب جوئی کرنا، کو الزام دینا، قصور وار ٹھہرانا، کو برا، نامناسب یا قابل الزام پانا، پر اعتراض کرنا، نکتہ چینی کرنا، تنقید کرنا، کی مذمت کرنا۔ ذمّمَ ہ کو ڈانٹنا، کی سخت مذمت کرنا، کو ملامت کرنا۔ ذمّ ملامت، زجر، توبیخ، مذمت، بے وقری، تحقیر، توہین، سبکی، بدنامی، ناقدرتی۔ ذمّة جمع ذِمَم حفاظت، ذمہ داری، پروا، نگہبانی، خبرداری، حفاظت کا عہد و پیمان، معاہدہ، قول و قرار، عہد، جوابدہی، مالی ذمہ داری، قرض، حرمت، زندگی اور جائیداد کی محافظت، کفالت، ضمانت، ضمیر، دل کی گواہی۔ بالذمة ایمانداری سے، فی الواقع، سنجیدگی سے۔ فی ذِمّتی و علی ذِمّتی سچ، سچ سچ، یقیناً، واقعی۔ فی ذمّتہ و بذمّتہ کے ذمے۔ ما بذمته اس کا قرض۔ علی ذمته کے زیر حفاظت، کی تحویل میں، کے ہاتھ میں، کے سپرد، کے فائدہ کے لئے یا کے مقصد کے لئے (مالی وسائل)۔ ھی علی ذمته وہ مالی طور پر اسکی دست نگر ہے، اس کی مدد کرنا، اس کے ذمے ہے۔ اهلُ الذمّة اسلامی ممالک میں رعایا کے طور پر رہنے والے آزاد غیر مسلم جو جزیہ دیکر حفاظت اور امان کے حقدار ہیں۔ طاهرُ الذمة صاف ضمیر والا۔ دیانت دار۔ برّأ ذِمّتَهٗ اپنے ضمیر کو تسکین دینا، اپنی ذمہ داری پوری کرنا۔ ذِمّی آزاد غیر مسلم شخص جو کسی مسلمان ملک میں آزاد رعایا کے طور پر رہتا ہو اور جزیہ ادا کرتا ہو۔ ذِمام جمع اَذِمّة حق، دعویٰ، استحقاق، حفاظت، جان و مال کی حفاظت۔ فی ذِمام اللیل رات کی تاریکی میں ہیں۔ ذَمیم ڈانٹ ڈپٹ کیا ہوا، برا، نامناسب، قابل الزام، قابل اعتراض، لائق مذمت، بدصورت، ناجائز، غیر منصف، بدطینت، کینہ جو، ناگوار۔ مَذمّة جمع مَذامّ: عیب جوئی، الزام تراشی، الزام، ملامت، زجر، توبیخ۔ مَذمُوم ملامت کیا ہوا، مذمت کیا ہوا، الزام لگایا ہوا، مذموم، قابل الزام، برا، نامناسب، قابل اعتراض، لائق مذمت۔

ذما: ذمَا ُ ذَمْواً الامر علیہ پر کوئی معاملہ شاق و بار ہونا۔

ذمر ۱۔ ذمَرَ ُ ذَمْراً هُ کو دھمکی دینا۔ هُ علی الامر کو کسی کام پر ملامت کر کے اکسانا، ابھارنا۔ تَذمّر کسی کام کے ہاتھ سے نکل جانے پر اپنے آپ کو ملامت کرنا، غصہ کرنا۔ علی فلان کسی پر برافروختہ ہونا، کو دھمکانا کہا جاتا ہے۔ کان یتذمّرُ علی ربّه وہ اپنے آقا پر بلند آواز سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ و۔ تذامَرَ القومُ ایک دوسرے کو ملامت کرنا، ایک دوسرے کو جنگ پر بھڑکانا۔ الذِمِر و الذِمِّر و الذِمِرّ و الذِمّیر جمع اذمار بہادر۔ ذَمارِ جنگ پر برانگیختہ کرنے کے لئے اسم فعل۔ الذِمار ہر وہ چیز جس کی حمایت، حفاظت اور بچاؤ کسی کے ذمے ہو اور ایسا نہ کرنے پر ملامت کی جائے، حرم، خاندان۔ (کہا جاتا ہے۔ هو حامی الذِمار وہ عزت کا محافظ ہے۔) سب کچھ جو مقدس ہو، کہا جاتا ہے۔ هو امنع ذِماراً منك وہ تم سے زیادہ اپنے اہل اور اپنی سب چیزوں کا حفاظت کرنے والا ہے۔ الذمارة شجاعت۔ الذِیمَری سخت طبیعت (شخص)۔

۲۔ ذمَرَ ُ ذَمْراً الاسدُ شیر کا دھاڑنا۔ ذمَرَ الرجلَ کے موڈھے کو چھونا۔ الشیءَ کا اندازہ لگانا۔ المُذمّر (مفع) گردن اور اس کے ارد گرد کا حصہ، کندھا کہا جاتا ہے۔ بلغ الامرُ المُذمّرَ معاملہ سنگین ہو گیا۔

○ تذمّر من / علی کے بارے میں شکایت کرنا، بڑبڑانا۔

ذِمار مقدس قبضہ، عزیز یا پیاری سمجھی ہوئی اشیاء، عزت، نیک نامی، وقار۔ تذمُّر جمع تذمُّرات بڑبڑانا، بڑبڑاہٹ، شکایت، وجہ شکایت۔

ذمل: ذمَلَ ُ ذَمْلاً و ذَمِیلاً و ذُمُولاً و ذَمَلاناً البعیرُ اونٹ کا نرم چال سے چلنا۔ ذمّلَ البعیرَ اونٹ کو نرم چال چلانا۔ الذَّمِیل نرم چال۔ ناقة ذَمُول نرم چال چلنے والی اونٹنی۔

الاَذمَل برص والا۔

ذمه: ذَمِهَ - ذَمَهًا الحرُّ گرمی کا تیز اور شدید ہونا۔ الرجلُ بالحرِّ گرمی سے گھبرا جانا۔

ذمی: ۱۔ ذَمِیَ - ذَمْیاً و ذَماءً ہلنا، حرکت کرنا۔ ذمَی ِ ذَمَیاناً جلدی کرنا۔ استَذمَی ما عنده کا پیچھا کر کے سب کچھ لے لینا۔

۲۔ ذمی ِ ذَماءً کی بیماری کا طویل ہونا، قریب المرگ ہونا۔ اَذمَی اِذماءً فلاناً کو مار مار کر قریب المرگ کر دینا۔ الذَماء رمق زندگی کہا جاتا ہے۔ اَطْوَلُ ذَماءً من الضبّ سوسمار سے بھی زیادہ سخت جان (کیونکہ سوسمار کی جان بہت دیر میں نکلتی ہے) کہا جاتا ہے۔ ما بقی منهُ الّا ذَماءٌ یترَدّدُ فی خیال اسکی باقی جان جسم میں پیکر خیال کی طرح ہچکچاتی ہے۔

۳۔ ذمی ِ ذَماءً بدبو دینا۔ لَهٗ ذَمیاً الریحُ کو ہوا کا

تکلیف دینا۔ الذمَی بدبو۔

○ ذمِیَ - ذَمَاءً موت کی کشمکش میں ہونا۔ ذَمَاء آخری بچا کچھا، زندگی کا آخری سانس۔ ذماء من الحیاة زندگی کا آخری سانس۔

دنّ: ا۔ ذَنَّ - ذَنِینًا و ذَنَنًا المُخَاط ناک سے رطوبت بہنا۔ ذَنَنًا و ذَنَّ کی ناک کی رطوبت بہنے لگنا۔ الذَنَنَ (مص) گندگی۔ الاذَنّ مونث ذَنّاء جمع ذُنّ جس کی ناک سے رینٹ بہتی ہو۔ تنفك منك وان كان اذَنّ اس ضرب المثل میں اس شخص کو مخاطب کیا جاتا ہے جو اپنی قوم کے ضعفاء سے بے زار ہو۔ الذنان و الذَنِین ناک کی ریزش، رینٹ۔

۲۔ ذَنَّ - ذَنِینًا البردُ سردی کا سخت ہونا۔

۳۔ دنّ - ذَنِینًا و ذَنَنًا کمزور چال سے چلنا کہا جاتا ہے: انهُ لیَذِنُّ وہ بڑھاپے یا بیماری سے کمزور ہے۔ نیز کہا جاتا ہے۔ مازال یدن فی تلك الحاجة حتی انجَحَهَا وہ اس ضرورت میں ہچکچاتا رہا یہاں تک کہ وہ اس میں کامیاب ہوگیا۔ الذُنَانَة کمزور شے کا بقیہ، حاجت۔

ذنب: ا۔ ذَنَبَ - ذَنْبًاهُ کا پیچھا کر کے اس کے نشانات قدم کو نہ چھوڑنا۔ تَذَنَّبَ الطریقَ راستہ پکڑنا۔ تذانَبَ السحابُ بادلوں کا آگے پیچھے چلنا۔ اِسْتَذْنَبَهُ: کا پیچھا کرنا۔ — الامرُ کام کا پورا ہونا۔

۲۔ ذَنَّبَ الجرادُ ٹڈی کا انڈے دینے کے لئے زمین میں دھنسنا۔ الضبُّ سوسمار کا اپنے بل سے دم کو باہر نکالنا اور سر اندر رکھنا۔ — الضبَّ سوسمار کو دم سے پکڑنا۔ العمامَةَ عمامہ کا شملہ چھوڑنا۔ - الکتابَ کتاب کے ساتھ اس کا تتمہ شامل کرنا۔ تَذَنَّبَ الرجلُ پگڑی کا شملہ لٹکانا۔ الذنب من الحیوان جمع اَذْنَاب دم، جاتا ہے۔ ضربَ بِذَنَبِهِ وہ غیر متزلزل رہا۔ رکب ذَنَبَ البعیر وہ اپنے ناقص حصے پر راضی رہا۔ رکب ذَنَبَ الریح وہ سبقت لے گیا ایسی سبقت جسے کوئی اور نہ پا سکا۔ بینی و بینه ذَنَبُ الضبّ میرے اور اس کے درمیان عداوت ہے۔ ذَنَبُ الثعلبِ و ذنبُ الفرسِ (ن) دو پودوں کے نام۔ ذَنَبُ الخیل او الکُنبَاثُ (ن): مرطوب جگہوں میں اگنے والا ایک پودا۔ العقربِ بچھو کا کانٹا، ڈنک۔ — السوطِ کوڑے کا سرا۔ ادناب ... گھٹیا، نیچے طبقہ کے لوگ۔ الذِنَاب جمع ذَنَائِب رسی جس سے اونٹ کی دم باندھی جاتی ہے۔ ذِنَابُ الشیءِ: چیز کا پچھلا حصہ۔ ضبٌّ اَذْنَب لمبی دم کا سوسمار۔ الذَنُوب دنبہ کی چکی کا گوشت۔ جمع ذَنَائِب ذِناب و اَذْنِبَة من الخیل لمبی اور گھنے بالوں کی دم والا گھوڑا۔ دَلْوٌ ذَنُوبٌ دم دار کنبھ۔ المِذْنَب لمبی دُم۔ والمِذْنَبَة چمچہ۔ الذَنَبَة جمع ذَنَبات دُم — من الوادی وادی کا سرا۔ ذَنَبات الناس و ذُنَابَاتهُم گھٹیا درجے کے لوگ، لوگوں کے تابع فرمان افراد۔ اَلْمُذَنَّب دم دار چیز۔ نجمٌ مُذَنَّب او ذات الذَنَب (فلک) دم دار ستارہ۔ الذِنِبیّ و الذُنُبیّ دُم۔ المُذَانِب من الابل او الخیل سب سے پیچھے چلنے والا اونٹ یا گھوڑا۔ الذِنَابَة و الذُنَابَة من الوادی وادی کا سرا۔ الذُنَابَی پرندہ کی دم۔ ذُنَابَی الطائِرة (اع) طیارہ کے پیچھے سطحوں کا مجموعہ جو اس کو قائم رکھنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔

۳۔ اَذنَبَ الرجلُ گناہ کا مرتکب ہونا۔ تَذَنَّبَ علیه پر ظلم و زیادتی کرنا۔ اِسْتَذْنَبَهُ کو مجرم پانا یا سمجھنا۔ الذنب جمع ذُنوب جمع الجمع ذُنُوبَات جرم، گناہ، قصور۔

۴۔ الذَنُوب قبر۔ المِذْنَب تنگ نالہ یا ندی کہا جاتا ہے۔ سالت المَذَانِبُ نالے بہ پڑے۔ الذِنَابَة قرابت۔

○ اَذْنَبَ: ظلم کرنا، گناہ کرنا، جرم کرنا، خلاف ورزی کرنا، مجرم ہونا، عاصی ہونا، خطا کار ہونا، گناہ گار ہونا۔ سزا کا مستوجب، لائق تعزیر یا قابل مواخذہ ہونا۔ اِسْتَذْنَبَهُ کو گناہ گار، مجرم یا خلاف ورزی کا مرتکب پانا یا قرار دینا۔ ذَنْب جمع ذنوب گناہ، جرم، خلاف ورزی، خطا، قصور، فعل بد، مجرمانہ فعل، برا کام۔ ذَنَب جمع اَذْنَاب دم، سرا، حمایتی، طرفدار، پیرو، بہی خواہ، مرید، چیلا، معتمد خاص، ساتھی ملازم۔ ذَنَبِی دم کی مانند، دم کی طرح، دم دار، ملحقہ، بطور تتمہ یا ضمیمہ شامل، کوئی چیز یا شخص جو بطور ماتحت دوسرے کے ساتھ ہو، وابستہ، ماتحت، زیر حکم، تابع محتاج۔ ذُنَیب ذُحل۔ مُذَنَّب دم دار تارا۔ مُذْنِب مجرم، گناہ گار، بدکار، قصور وار، خطا وار، پاپی، لائق مواخذہ، مستوجب سزا، سزاوار۔

ذہ: ذِهْ و ذِهِ مونث قریب کے لئے اسم اشارہ ہائے تنبیہ داخل ہونے پر کہا جاتا ہے۔ هٰذِهْ و هٰذِهِ یہ (مونث چیز یا شخص)۔

ذهب: ا۔ ذَهَبَ - ذَهَابًا و ذُهُوبًا و مَذْهَبًا چلنا، گزرنا، مرنا۔ — الامرُ ختم ہونا۔ عَلَی الشیءِ کو بھول جانا۔ — کے ساتھ جانا، کو لے جانا، کو اس کی جگہ سے ہٹانا۔ کہا جاتا ہے۔ ذهبت به الخُیَلاء: اس نے تکبر اور خود فریبی میں افراط و تفریط سے کام لیا۔ اَذْهَبَهُ و اَذْهَبَ به کو لے جانا۔ الذَهُوب جانے والا۔

۲۔ ذهَبَ - ذَهَابًا و ذُهُوبًا و مَذْهَبًا فی المسئلة اِلی کذا: کسی مسئلہ میں کوئی رائے رکھنا، ہونا۔ تَمَذْهَبَ بالمَذْهَب کسی مذہب کی پیروی کرنا۔ المَذْهَب (مص) جمع مَذَاهِب اعتقاد، طریقہ، اصل۔ مَذَاهِبُ الاسلام حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی۔ المُذَهَّبَات زمانہ جاہلیت کے سات قصیدے جو معلقات کے بعد دوسرے درجہ میں شمار ہوتے ہیں۔

۳۔ ذَهِبَ - ذَهَبًا سونے کی کان میں بہت سا سونا پا کر حیران ہونا، عقل جاتی رہنا۔ ذَهَّبَ و اَذْهَبَ الشیءَ کسی چیز پر سونے کا پانی چڑھانا۔ ایسی چیز کو۔ ذَهِیب و مَذْهَب و مُذَهَّب کہا جاتا ہے۔ الذَهَب (مص) جمع اَذْهَاب و ذُهُوب و ذُهْبَان سونا (کبھی مونث بھی آتا ہے) سونے کا ایک ٹکڑا ذَهَبَة کہلاتا ہے۔ — جمع ذِهَاب و اذهاب و جج اَذَاهِیب انڈے کی زردی۔

۴۔ الذِهْبَة جمع ذِهَاب و أذهاب جج أذاهیب ہلکی یا زور کی بارش۔

○ ذَهَبَ - ذَهَابًا و مَذْهَبًا الی کے پاس جانا، کا سفر کرنا، — جانا، روانہ ہونا، چھوڑنا، غائب ہونا، دفعتہً غائب ہو جانا، ہوا میں تحلیل ہو جانا، ختم ہو جانا، جاتا رہنا، معدوم ہو جانا، ختم ہونے کے قریب ہونا، سمٹنا، گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ جانا، فنا ہو جانا، مر جانا، تباہ ہو جانا۔ ب: کو لے جانا، غائب کر دینا، چرا لینا، کسی چیز یا شخص کو بہکا کر لے جانا، کو نیست و نابود کرنا، تباہ و برباد کرنا۔ ذهب به اِلی کو تک لے جانا، کی تک رہنمائی کرنا۔ — اِلی: کچھ سوچنا، خیال کرنا، یقین کرنا، اعتقاد رکھنا کہ، کی رائے ہونا کہ۔ عن: سے بچ نکلنا، کے ذہن سے نکل جانا، ذهب عنه ان: بھول جانا کہ، ذہن سے نکل جانا، کا نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ ذهب عن کو نظر انداز کر دینا، کو نہ کرنا، چھوڑ دینا۔ ذَهَبَ وجَاءَ: آگے پیچھے جانا، ٹہلنا، چہل قدمی کرنا۔ ذهب اِلی ابعَدَ من: سے آگے جانا۔ ما یذهب فی نَوْعَتِهِ: اس طرح۔ اَیْنَ یُذْهَبُ بِكَ تمہاری یہ مراد نہیں ہو سکتی، یہ بیہودہ اور احمقانہ تجویز ہے۔ ذَهَبَ سُدًی: بیکار یا فضول ہونا، لا حاصل ہونا۔ ذَهَبَ اَدْرَاجَ الرِیَاح بن دیکھے گزر جانا، کوئی نشان چھوڑے گزر جانا، ٹائیں ٹائیں فش ہونا، لا حاصل

ہونا، فضول یا بیکار ہونا، کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا، کا کچھ نہ بننا، ناکام رہنا۔ ذھب کأمس الدابر ہوا میں تحلیل ہو جانا، کوئی نشان چھوڑے غائب ہو جانا، گزشتہ کل کی طرح۔ ذھب ببَھائِہِ کا سحر، دلربائی یا کشش زائل کر دینا۔ ذھب بنفسہ (خوشی، دہشت وغیرہ کا) کسی کی جان لے لینا۔ ذھب بخیالِہِ اِلی کا تصور تک بھٹکنے دینا۔ ذھب مذھبہٗ کسی کا مکتبۂ فکر قبول کرنا، کے خیالات قبول کرنا، کی پالیسی اختیار کرنا، کی طرح کام کرنا، کی تعلیمات کی اتباع کرنا، اپنانا۔ ذھب کلَّ مذھب ہر سمجھ میں آنے والی بات کرنا، کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرنا، پوری کوشش کرنا، ہر طرح کی کوشش کرنا۔ ذھّب ہ کو ملمع کرنا، پر سونے کا پتر چڑھانا، کو گلٹ کرنا۔ اَذْھب ہ کو غائب کرنا، نکال دینا، خارج کرنا، ہٹانا، اٹھانا۔ ہ عن سے کوئی چیز لے جانا۔ تمذھب ب کوئی تعلیم، مذہب اختیار کرنا، قبول کرنا۔ ذھب (مذکر و مونث) سونا، سونے کا ٹکڑا، سونے کا سکہ۔ ذھبٌ ابیض پلاٹینم۔ ذھبی سنہری، سونے کا، قیمتی بہت عمدہ، اعلیٰ، موزوں، مناسب، برمحل (مشورہ، مقولہ وغیرہ) ایۃ ذھبیۃ سنہری لفظ، قول، قول زریں۔ ذھبیۃ جمع ذھبیات دریائے نیل میں چلنے والی لمبی ہاؤس بوٹ (رہائش کے لئے بنائی ہوئی کشتی) ذھاب جانا، گزرنا، چھوڑنا، خفیف ہونا، سمٹنا، گھٹتے گھٹتے کم رہ جانا، نقصان، گھاٹا، خسارہ، پوشیدگی، غیبوبیت، روانگی، سفر۔ تفریحی سفر، رائے خیال، (الی) ان کو۔ ذھاباً و ایاباً جانا آنا، آگے پیچھے اوپر نیچے، تذکرۃ ذھاب و ایاب جانے آنے کا ٹکٹ۔ ذُھوب جانا۔ ذھوب و مآب آنا اور جانا۔ فی جیئۃ و ذھوب آتے جاتے، اتار چڑھاؤ کی حالت میں، کے نشیب و فراز میں۔ مذھب جمع مذاھب جانا، روانگی۔ عن سے باہر نکلنے کا راستہ، سے فرار کا راستہ۔ — طریقہ، طریقہ عمل، پالیسی، سڑک، رائے، خیال، عقیدہ، اعتقاد، یقین، نظریہ، نظریاتی بنیاد، نقطۂ نظر، تعلیم، اصول، عقائد، تحریک، صحیح اور واضح سمت کا تعین، محل وقوع یا سمت کا تعین، میلان، رخ، رجحان، مکتبۂ فکر، مذہب، فقہی مذہب، مذہبی مسلک، دھرم، مت، ایمان، فرقہ، گروہ۔ مذھبُہٗ فی الحیاۃ اس کا فلسفۂ حیات۔ المذھب المادی مادی نظریۂ زندگی تک مادی رسائی۔ ذھب مذھبا بعیدا بہت دور جانا، بہت دور تک پھیلا ہوا ہونا۔ مذھبی فرقہ وارانہ، گروہی، مسلمہ، فرقہ بندی کا۔ مذھبیۃ فرقہ پرستی۔ ذاھب اللون بے رنگ، خراب یا بدلے ہوئے رنگ کا، پھیکا (رنگ)۔ مذھوبٌ بہ و مذھوب العقل پاگل، دیوانہ، آپے سے باہر۔ مُذَھَّب و مُذْھَب سونے کا پتر چڑھا ہوا، گلٹ شدہ، سنہری، ملمع۔

ذھر ذَھِرَ - ذَھَراً فُوہٗ کالے دانتوں والا ہونا، صفت۔ اَذْھَر۔

ذھل ا۔ ذَھَلَ - ذَھْلاً و ذُھُولاً الشیءَ وعنہ کو بھول جانا، سے غافل ہونا۔ ذَھِلَ - ذُھُولاً حیران ہونا، ہکا بکا رہنا۔ اَذْھَلَ ہٗ کو بھلا دینا، غافل کر دینا۔ المَذْھَل جمع مَذَاھِل بھولنے کی جگہ۔

۲۔ الذُّھْل و الذَّھْل من اللیل رات کا ایک حصہ۔ الذُّھْلُول جمع ذَھَالِیل من الخیل او الرجال عمدہ گھوڑا، اچھا آدمی۔

ⓒ ذَھَلَ - ذَھْلاً و ذُھُولاً عن کو بھول جانا، نظر انداز کرنا، سے اغماض کرنا، چشم پوشی کرنا، کو چھوڑنا، ترک کرنا، پر توجہ نہ کر سکنا۔ ذَھِلَ - ذُھُولاً حیران پریشان ہونا، متحیر ہونا، الجھن میں پڑ جانا، گھبرا جانا، دہشت زدہ ہو جانا، خوف زدہ ہونا، ہراساں ہونا، چونک پڑنا، بوکھلا جانا، چکرا جانا، ششدر ہونا، حیرت میں پڑنا، متعجب ہونا، ڈرنا، خوفزدہ ہونا، ہٹنا، دبنا، جی چرانا، پراگندہ دماغ ہونا، آپے سے باہر ہونا، دیوانہ ہو جانا۔ عن سے توجہ پھیرنا، کو بھلا دینا، نظر انداز کرنا، سے غفلت کرنا، تغافل کرنا۔ اَذْھَلَ ہٗ کو چکرا دینا، چونکا دینا، گھبرا دینا، حیرت میں ڈالنا، کے ہوش گم کرنا، کو پریشان کرنا۔ ہ عن کی سے توجہ ہٹانا، کو کچھ بھلا دینا۔ ذُھُول حیرانی، الجھن، گھبراہٹ، حیرت، سراسیمگی، پریشانی، بدحواسی، بے ہوشی، بے حسی، استعجاب کی حالت میں منہ کھلا کا کھلا رہنا، بوکھلاہٹ، پراگندگی، ہراس، خوف، دہشت، حیرانی، تعجب، اچنبھا، تحیر، ذہنی انتشار، پریشان خیالی، پراگندہ خیالی۔ عن سے توجہ ہٹنا، پھرنا۔ ذاھل بے پروا، غافل، بھولنے والا، تغافل شعار، دیوانہ، آپے سے باہر، کھویا ہوا، بے خیال، بے حواس، مدہوش، سخت حیرت میں۔ مَذْھُول پریشان، گھبرایا ہوا، حواس باختہ، دہشت زدہ، چھکے چھڑایا ہوا، سراسیمہ، حیران، الجھن میں پڑا ہوا، چکرایا ہوا حیران و پریشان، پاگل خیالات میں کھویا ہوا، گم، محو، مستغرق، غافل، پراگندہ دماغ۔ مُذْھِل چونکا دینے والا، حواس باختہ کرنے والا، چکرا دینے والا، حیران کن، پریشان کن، حیرت انگیز۔ مُنْذَھِل گھبرایا ہوا، دہشت زدہ، چھکے چھڑایا ہوا، پریشان، حواس باختہ، حیران و پریشان، پاگل، سراسیمہ، خیالات میں کھویا ہوا، گم، محو، مستغرق، غافل، پراگندہ دماغ۔

ذھن ا۔ ذَھَنَ - ذَھْناً و الامر کسی امر کو سمجھنا کا ادراک کرنا، تیزی ذہن میں پر غالب آنا۔ اَذْھَنَ و اسْتَذْھَنَ الرجل عن الامر کو کوئی کام بھلا دینا، فراموش کرا دینا۔ ذَھِنَ - ذَھَناً الشیءَ کو سمجھنا۔ ذَھُنَ ذَھَانَۃً اچھے حافظہ والا ہونا۔ ذُھِنَ کند ذہن ہونا۔ ذاھَنَ ہٗ سے سمجھ سے بڑھ جانا کہا جاتا ہے: انہ یذاھن الناس و یفاطنھم وہ ان سے اپنے ذہن اور ہوشیاری سے مقابلہ کرتا ہے۔ الذِّھْن جمع اَذْھان سمجھ، عقلی قوت، حافظہ قوت۔ ما بِرِجْلِی ذِھْنٌ میرے پاؤں میں چلنے کی قوت نہیں ہے۔ الذَّھَن جمع اَذْھان سمجھ، زیرکی، کہا جاتا ہے۔ ھو من اھل الاذھان وہ زیرک لوگوں میں سے ہے۔ رجلٌ ذُھُنٌ و ذِھِنٌ ذکی و سمجھدار آدمی۔

۲۔ الذِّھْن جمع اذھان چربی۔

ⓒ ذِھْن جمع اَذْھان ذہن، دماغ، دل، عقل، فہم، فراست، دانشمندی۔ ذِھْنِی عقلی، شعوری، خیالی، ذہنی، دماغی۔ ذِھْنِیۃ ذہنیت، ذہنی قابلیت، افتادِ طبع، رجحان۔

ذھا ذَھَا - ذُھُوًا تکبر کرنا۔

ذو ا۔ ذُو تثنیۃ ذَوَان جمع ذَوُون صاحب، مالک اس کا اعراب اسمائے خمسہ کا سا ہے۔ ذُو الیدِ اَحَقّ قبضہ کرنے والا زیادہ حقدار ہے۔ ذَوُو الاَرحام رشتہ دار لوگ۔ ذا صاحب، یہ اسماء خمسہ میں سے حالت نصب میں ہے۔ کہا جاتا ہے۔ وجدتہٗ ذا صباح میں نے اسے بوقت صبح پایا۔

ذی صاحب، اسماء خمسہ میں سے ہے اور حالت جر میں ہے کہ کہا جاتا ہے۔ کان ذلک من ذی قبل یہ گزشتہ زمانہ میں تھا۔ جاء من ذی نفسہ وہ خوشی سے آیا۔ الذُّوُون و الاَذْواء شاہان یمن، ان کے ناموں کا آغاز لفظ ذو سے ہوتا ہے۔ مثلاً ذو یزن، ذو نواس و ذو رعین۔

۲۔ ذات ذو کا مونث۔ تثنیہ ذَوَاتا جمع ذَوَات اس کا اس کے تثنیہ و جمع کا اعراب انہیں کے مشابہ مفرد و تثنیہ جمع اسماء کا سا ہوتا ہے کہا جاتا ہے۔ لقیتہ ذات یوم او ذات لیلۃ او ذات مَرّۃ میں نے اس سے ایک دن، ایک رات یا ایک مرتبہ ملاقات کی کہا جاتا ہے۔ کان ذلک ذات العُوَیْم یہ گزشتہ سال تھا۔ جلس ذات الیمین وہ دائیں جانب بیٹھا۔ لقیتہ اوّلَ ذات یَدَین میں سب سے پہلے اس سے ملا۔ القت الدجاجۃ ذات بطنھا مرغی نے انڈا دیا یا بیٹ کی۔

ـــ الصدرِ سوچ یاراز ملیمین سیدھی جانب،
دائیں جانب ملیِّن حال کہا جاتا ہے ملصلحوا
ذاتَ بینکم تم اپنی آپس کی حالت کو درست کرو۔
شفۃٍ کلمہ کہا جاتا ہے کلّمتہ فمارَدَّ علیَّ ذاتَ
شفۃ میں نے اس سے گفتگو کی تو اس نے جواب میں
ایک کلمہ تک منہ سے نہیں نکالا ملید ملکیت کہا جاتا
ہے فلّت ذاتُ یدہ اسکی ملکیت تھوڑی رہ گئی۔
ـــ الجَنب (طب) نمونیا کی بیماری ـــ الرئۃ
و ذات الصدر و ذات الکبد (طب) یہ پھیپھڑے،
سینے اور جگر کی بیماریوں کے نام ہیں ذاتُ الشیء
وہی چیز ملذاتُ وہ چیز جو جانی جا سکے یا اسکی خبر دی
جا سکے ملسن الذات عند النحاۃ (نحویوں کے
نزدیک) جو کسی ذات کے ساتھ لگایا جا سکے، جیسے
الرجل کالاسد اس کے مقابل اسم المعنی ہے جیسے علم،
شجاعت المذوات قوم کے بڑے لوگ ملذاتی
ذات سے منسوب، ذاتی، ذات کا ذات کے متعلق۔

ذو (بحالت رفع) ذی (بحالت جر) ذا (بحالت
نصب) مونث ذات جمع ذَوُو (مذکر) اُولُو و
ذَوَات جمع مونث، مالک، رکھنے والا، قابض، آقا،
سے مزین و آراستہ یا فراہم شدہ۔ پر مشتمل۔
ذُوعَقل دماغ والا، ذہین، دانشمند ذُومَالٍ امیر،
دولت مند ذُوصحۃ تندرست صحت مند ذوشان:
اہم ذوالقُربیٰ رشتہ دار، عزیز غیر ذی زرع
غیر مزروعہ (زمین) ملن ذی قَبلُ سے پہلے مں
ذی نفسِہِ اپنی مرضی سے، خود بخود، طبعی طور پر۔
ذَوُوہ اس کے رشتے دار، اقارب، اعزاء، لوگ۔
ذوو المَودّۃ والمعرفۃ اس کے دوست اور شناسا۔
ذَوُو الشُبہات مشتبہ لوگ، بدنام لوگ ذَوُو الشان
اہم اور ذی اثر لوگ، مجاز لوگ، حکام، معاملہ سے متعلق
لوگ ملولو الامر حکام، زعماء، رہنما ملولو الحل
و العقد بااثر لوگ، بااقتدار لوگ، ذات جمع ذَوات
ہستی، جوہر، قسم، نوعیت، خود، شخص، ذات، شخصیت،
وہی، ہو بہو، بعینہ، بجنسہ، خود، آپ ملذَوات رتبہ
والے لوگ، ممتاز لوگ، مشہور لوگ ذاتاً اصالتاً
بذات خود ذاتُ البین نا اتفاقی، ان بن، نزاع،
پھوٹ، ناچاقی، تنازع، جھگڑا، بے آہنگی، اختلاف،
دشمنی، دوستی ذات الجَنب. ذات الصدر، پھیپھڑے
کی جھلی کا ورم ذاتُ الرئۃ نمونیا۔ ذات الصدر،
سینہ کی بیماری ذات الید دولت، دولت مندی،
مرفہ الحالی ذات ایدینا ہماری چیزیں ذات
الیمین دائیں طرف ذاتَ الشمال بائیں
طرف ذات الیسار بائیں طرف ذاتَ مرّۃ
ایک دفعہ، ایک مرتبہ فی ذاتِ مرّۃ ایک دفعہ، ایک
مرتبہ ذاتَ یومٍ ایک دن فی ذات یوم ایک
دن فی ذات غدٍ آئندہ کبھی، جلد فی ذاتِ
کے بارے میں، بلحاظ، بحوالہ بالذات کے سوا کوئی
نہیں، سب کچھ، سب سے اصالتاً، بذات خود
بالذات میں خود فی لندن بالذات سب
جگہوں میں سے لندن میں ملسعادۃ بالذات اشد
ضروری، خوشی، اصلی خوشی ذاتُ نفسِہِ ذاتُ انفسِہِم
وہ خود (واحد جمع) اسکی یا انکی وہی طبیعت ھو بذاتہ:
وہ خود ھو ذاتُہ: وہ خود ذاتُ الشیء : وہی
چیز ذاتُ الاشیاء چیزیں ملسنۃ ذاتہا: اسی
سال لِذاتِہ خود اس کا خود، اسی حیثیت سے، اس
کی خاطر فی ذاتہ اسکی ذات میں فی حد
ذاتہ اسکی ذات میں قائم بذاتہ: مستقل، خود
قائم، بالکل الگ، تنہا ملثقۃ بالذات. خود اعتمادی،
اعتماد بالذات حُبُّ الذات و مَحَبَّۃُ الذات :
انانیت، حب ذات للاعتماد علی الذات: خود
اعتمادی صریح بذاتہ : صاف ظاہر، بدیہی، اپنی
وضاحت آپ کرنے والا مُناقِضُ ذِاتَہُ خود
تردیدی ملبن ذوات: خاندانی ذَاتِی ذاتی،
، خود تیار کردہ، خود پیدا کردہ، خود بخود، طبعی، فطرتی، بلا
ارادہ، خودرو، خود کرنے والا، خودکار، خود بخود کام کرنے
والا، نفسی، ذہنی، داخلی، موضوعی جمع اتیون: داخلیت
کے قائل ذاتیاً: خود اصالتاً بذات خود ملحکم
الذاتی خود مختاری، آزاد ریاست ذاتیۃ: شخصیت،
ذاتیت، (کسی شخص کی) شناخت تحقیق الذاتیۃ:
کسی شخص کی شناخت، نشاندہی لاذاتیۃ: غیر یالا
شخصیت۔

ذواتی اونچے درجہ کا، مخصوص، پرتکلف۔

ذاب: اذَابَ ۔ذَوْباً و ذَوَبَاناً الثلجُ او السمنُ
برف یا گھی کا پگھلنا ملرجلُ ہمیشہ شہد کھانا ت
الشمسُ: سورج کی گرمی کا تیز ہونا۔ دمعُہُ: کے
آنسو بہنا، کہا جاتا ہے ذَابَ جسمُ الرجل آدمی
کا جسم لاغر و دبلا ہو گیا۔ آدمی لاغر ہو گیا۔ ذَوَّبَ
السمنَ گھی کو پگھلانا لمَذَابَ اذابۃً السمنَ گھی کو
پگھلانا لِستَذَابَہُ سے پگھلانے کی درخواست
کرنا المَذُوب: (مص) خالص شہد ذوبُ الذھب:
سونے کا پانی یا اس کو پگھلانے والا کہا جاتا ہے۔
ھٰذا الکلامُ ذوبُ الروح. یہ کلام روح پگھلانے
والا ہے [illegible] [illegible] ملمذوبۃ
کٹھالی ملمِذْوَبَۃ جمع مَذَاوِب چمچہ ملاِذْوَاب
والاِذْوَابَۃ: پگھلا ہوا مکھن کہا جاتا ہے ھو احلی
من الذوب بالا ذُوَابَۃِ وہ مکھن سے ملے خالص
شہد سے زیادہ شیریں ہے۔

۲ ذَابَ ۔ذَوْباً و ذَوَبَاناً الرجلُ عقل مند ہونے
کے بعد بیوقوف ہو جانا ملمَذَاب عیب ملذَوْبَۃ
ذاب سے اسم مرۃ کہا جاتا ہے ظھرت منہ ذَوْبَۃٌ
اس سے حماقت ظاہر ہوئی۔

۳ ذَابَ ۔ذَوْباً و ذَوَاباناً علیہ المالُ کو مال حاصل
ہونا کہا جاتا ہے ماذاب فی یدی منہ خیرٌ مجھے
اس سے ذرا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا ذابَ لی علیہ
حقٌّ میرا حق اس پر واجب و ثابت ہوا لمَذَابَ اِذَابَۃً
حاجتَہُ اپنی ضرورت پوری کرنا۔ القومُ امرھم
قوم کا اپنے معاملہ کو سدھارنا اِستَذَابَ حاجتَہُ
اپنی ضرورت پوری کرنا۔ الشیءَ کو باقی رکھنا۔
الذَوْبَۃ مال کا بچا ہوا حصہ۔

۴ ذَوَّبَ الغلامَ: لڑکے کے گیسو بنانا، دیکھو ذأبَ۔

۵ لَذَابَ اِذَابَۃً علی العدوّ: دشمن پر لوٹ ڈالنا۔

ذَابَ ۔ذَوْباً و ذوباناً حل ہونا، پگھلنا، دھیرے
دھیرے دوسرے رنگ میں مل جانا، پانی ہو جانا، پتلا
ہونا، گھٹنا، سکڑنا، روبہ تنزل ہونا، معدوم ہو جانا، جاتا
رہنا، غائب ہو جانا حسرۃً واَسیً: حسرت اور غم سے
گھل کر مر جانا ذابَ حیاءً شرمندگی سے مر جانا۔
ذابت اظفارُہ فی کے لئے بے سود جدوجہد کرنا۔
سعی لاحاصل کرنا ذَوَّبَ ہ کو حل کرنا، پگھلانا، پانی
کرنا، پتلا کرنا لمَذَابَ ہ کو حل کرنا۔ (جیسے پانی میں
نمکیاں حل کرنا) کو پتلا کرنا، پانی کرنا، کو پگھلا کرنا
(دھات) کو پگھلانا، کو خرچ کرنا، برت ڈالنا، ختم کر
دینا۔ اڑا دینا، ضائع کرنا، کھا پی لینا، کا عرق نچوڑ لینا،
کی جڑیں کھوکھلی کرنا لمَذَابَ جُھدَہُ: اپنی طاقت ختم
کر دینا لمَذَابَ عُصَارَۃَ مُخِّہِ فِی : میں دماغ پر
بہت زور دینا ذَوب: تجزیہ، تحلیل، محلول، پگھلانا،
گھلنا، پگھلنا، پانی کی طرح کر دینا، پانی بن جانا۔
ذَوَبانُ الثلج (یا الثلوج). برف کا پگھلنا، برف
پگھلنے کا موسم یا برف پگھلنے کی گرمی قابل لِلذَوَبان:
پگھلنے کے لائق، حل ہونے کے قابل، گھلنے کے لائق،
جو حل ہو سکے، تحلیل پذیر، انتشار، پذیر تَذوِیب:
تحلیل، حل، پگھلانا، بکھیلنا، پانی کی طرح کر دینا۔
اِذَابَۃ بمعنی تذویب ذَائِب : گلایا ہوا، پگھلایا ہوا
تحلیل کیا ہوا، پگھلی ہوئی (دھات) حل پذیر، تحلیل
پذیر، حل ہونے کے قابل، انتشار پذیر۔

ذاج: ذَاجَ ـُ ذَوْجًا جلدی کرنا۔ الماءَ پانی پینا۔

ذاج: ذَاجَ ـُ ذَوجًا تندی سے چلنا۔ و ذَوَّجَ الابلَ اونٹوں کو متفرق کرنا، منتشر کرنا۔

ذاد: ذَادَ ـُ ذَوْدًا و ذِيَادًا هُ کو دفع دور کرنا۔ دھتکارنا کہا جاتا ہے۔ ذاد الابلَ عن الماء اس نے اونٹوں کو پانی پر سے ہنکال دیا۔ ذَوَّدَ عن حسبه اپنے حسب کی حفاظت وحمایت کرنا صفت۔ ذائد جمع ذُوَّد و ذُوَّاد و ذادة۔ اَذَادَ اِذادةً و اَذْوَدَ اِذْوادًا هُ مدافعت پر کسی کی مدد کرنا۔ الذَود اونٹنیاں جن کی تعداد تین سے زیادہ اور تین سے کم نہ ہو۔ مونث ہے اس کا واحد نہیں ہوتا یا واحد ہے اور اس کی جمع اَذْوَاد ہے۔

الذوّاد بہت دفع کرنے والا، حقیقت کا حامی۔

المَذاد چراگاہ۔ المِذْوَد جس سے دفاع کیا جائے، جانوروں کا تھان، بیل کا سینگ، زبان۔

رجالٌ مَذَاوِدُ و مَذَاوِيدُ اپنے شرف کا دفاع کرنے والے۔

ذادَ ـُ ذَوْدًا و ذِيادًا بکھیر دینا، دور کرنا، بھگا دینا۔ ه / ه عن کو سے ہٹانا۔ عن کا دفاع کرنا، کی حفاظت کرنا۔ ذادالنوم عن عينه نیند کو کسی کی آنکھوں سے بھگا دینا، دور کرنا۔ ذَوْدعن کا دفاع، کی حفاظت۔

ذِيادعن کا دفاع، کی حفاظت۔ مِذْوَد جمع مَذَاوِد ناند تھان (جانوروں کا) پنالی۔ ذائِد جمع ذادة محافظ نگہبان، حافظ۔

ذاط: ذاطَ ـُ ذَوْطًا هُ کا گلا گھونٹنا یہاں تک کہ زبان باہر نکل آئے۔ الاناء برتن کو بھرنا۔

ذوط: ذَوِطَ ـَ ذَوَطًا چھوٹی تھوڑی والا ہونا صفت۔ اَذْوَط

الذَوَط ادنی درجہ کے لوگ۔ الذَوطة جمع اَذْواط (ع) زرد پیٹھ والی مکڑی۔

ذاع: ذاعَ ـُ ذَوْعًا مالَهُ مال ودولت کو بالکل ضائع کر دینا۔ اَذَاعَ اِذَاعَةً القومُ بما في الحوض قوم کا حوض کے سارے پانی کو پی ڈالنا۔ الرجلُ بـ مالِهِ اپنا مال لے جانا۔

ذاق: ذاقَ ـُ ذَوْقًا و ذَوَاقًا و مَذاقًا الشيءَ کو چکھنا۔ ـ العذابَ عذاب بھگتنا۔ ذوقًا و ذواقًا الرجلَ و ماعند الرجل کو آزمانا، جانچنا کہا جاتا ہے۔ ما ذاقَ ذَوَاقًا اس نے کسی چیز کو نہیں آزمایا۔ اَذاقَ اِذاقةً الشيءَ کو کوئی چیز چکھانا۔ تَذَوَّقَ الشيءَ کو تھوڑا تھوڑا چکھنا۔ تَذاوَقَ القومُ الشيءَ لوگوں کا کسی چیز کو چکھنا کہا جاتا ہے۔ تذاوقوا الرماح انہوں نے نیزوں کو ہاتھوں میں لے لیا، سنبھال لیا۔ اِستَذاقَ هُ کو آزمانا، کا تجربہ کرنا۔ لـهُ الامرُ کو با آسانی دستیاب ہونا۔ الذَوق قوت ذائقہ، طبیعت کہا جاتا ہے: هو حسن الذوق للشعر اس نے شعر کے لئے اچھی طبیعت پائی ہے۔

الذَوَاق مزہ (کہا جاتا ہے ذواقُهُ طيّبٌ کا مزہ خوشگوار ہے) طبیعت۔ الذائقة قوت ذائقہ۔

المَذاق مزہ کہا جاتا ہے۔ مَذاقُهُ طيّبٌ اس کا مزہ اچھا ہے۔ هو مُرُّ المَذاق اس کا مزہ کڑوا ہے۔

ذاق ـُ ذَوْقًا و ذَوَاقًا و مَذاقًا ه (خوراک وغیرہ) چکھنا کا نمونہ دیکھنا۔ ه کو آزمانا، کا تجربہ کرنا، کو آزما کر دیکھنا، کو تجربۃً استعمال کرنا، کو جانچنا، کا مزہ لینا، کی آزمائش کرنا، کو جھیلنا، برداشت کرنا، گوارا کرنا، کی کڑیاں جھیلنا، کی مشکلات میں سے گزرنا، کی تکلیفیں برداشت کرنا (مصیبت) اٹھانا۔ اَذاقَ ه ه کو کوئی چیز چکھانا، کو کسی چیز کا نمونہ دکھانا، کو کوئی چیز چکھنے کے لئے دینا۔ تَذَوَّقَ ه کو آہستہ آہستہ چکھنا، بار بار چکھنا، پوری طرح چکھنا، کا مزہ لینا، کا احساس ہونا، کو سمجھ لینا۔ سے پوری طرح لطف اندوز ہونا، کا مزہ اٹھانا۔ س سے لذت یاب ہونا۔ ذَوق جمع اَذْوَاق قوت ذائقہ۔ ذوق في کا ذوق (جیسے ادبی ذوق) (کے لئے) اثر پذیری۔ زود حسی، سریع الحسی، لطافت، انسانیت، خوش خلقی، سلیقہ، پسند، ذوق، رغبت، میلان، جھکاؤ، شوق، چاہ، مزہ، لذت، ذائقہ، مہک۔ الذوق السليم اچھا ذوق۔ ذَوْقي مزے کا، مزے دار، ذائقہ دار، لذیذ۔

ذَوَاق مزہ۔ ذَوَّاق خوش خوراک، لذیذ کھانوں اور شرابوں کا شوقین، صاحب ذوق کھانوں اور شرابوں کا مبصر۔ مَذاق مزہ۔ ذائقة قوت ذائقہ۔

ذوی: ذَوَى ـِ و ذَوِيَ ـَ ذَوِيًّا النباتُ پودہ کا مرجھانا، سوکھنا۔ اَذْوَى اِذْواءً هُ کو مرجھا دینا، خشک کرنا۔

الذُوِي بکری کے چھوٹے بچے۔ الذُوَاة تربوز انگور وغیرہ جیسی اشیاء کا چھلکا۔

ذاوٍ مرجھایا ہوا، پژمردہ، سوکھا ہوا، جھکا ہوا۔ ذي و هَذي مونث قریب کے لئے اسم اشارہ یہ۔ ذي دیکھو ذو۔

ذیت: ذَيْتَ ذَيْتَ (تکرار یا عطف کی وجہ سے) بات یا کام کے لئے کنایہ ہے۔ جیسے قلتُ له ذيتَ ذيتَ میں نے اس سے ایسا ایسا کہا۔ یا فعلتُ ذيتَ ذيتَ میں نے ایسا ایسا کیا، اسی طرح ذَيًّا ذَيًّا اور ذَيَّةَ ذَيَّةَ کا حال ہے۔

ذاج: ذَاجَ ـِ ذَيْجًا الماءَ پانی پینا۔ ذايَجَ مُذايَجَةً هُ کے ساتھ مل کر پینا۔

ذاخ: ذَيَّخَتِ النخلةُ کھجور میں کلم نہ لگنا، گابھا نہ لگنا۔

اَذَاخَ اِذاخةً بني فلان کو ذلیل کرنا۔ ـ بالمکان جگہ کے اردگرد چکر لگانا، کے آس پاس گھومنا۔ الذِيخ جمع اَذْيَاخ و ذُيُوخ و ذِيَخة (ح) دلیر بھیڑیا۔ (اس کی مادہ ذیخۃ) (ح) زیادہ بالوں والا سر بجو (ح): گھوڑا، تکبر (فلک) ایک سرخ رنگ کا ستارہ۔

ذار: ذارَ ـِ ذَيْرًا هُ کو ناپسند کرنا۔

الذِيرة مٹی ملا گوبر۔

ذاع: ۱۔ ذاعَ ـِ ذَيْعًا و ذُيُوعًا و ذَيْعُوعةً و ذَيَعانًا الخبرُ خبر کا پھیلنا۔ کہا جاتا ہے۔ ذاع في جلده الجربُ اس کی جلد میں کھجلی سب طرف سرایت کر گئی۔ اَذاعَ اِذاعةً الخبرَ و بالخبر خبر پھیلانا، نشر کرنا۔ السرَّ و بالسرِّ راز ظاہر کرنا۔ اِنْذاعَ الخبرُ خبر کا پھیل جانا۔ الاذاعة: (مص) ریڈیو جیسے الاذاعة اللبنانية ریڈیو لبنان یعنی الراديو اللبناني، دار الاذاعة ریڈیو اسٹیشن۔ المِذْياع میکروفون، ریڈیو۔ جمع مَذَاييع وہ شخص جو اپنے راز کو نہ چھپائے، آپ کہتے ہیں فلانٌ للاسرار مِذياعٌ وللاسباب مِضْياعٌ فلاں شخص رازوں کو افشا کرنے والا اور اسباب کو ضائع کرنے والا ہے۔

۲۔ اَذاعَ اِذاعةً القومُ ما في الحوض او بما فيه لوگوں کا حوض کے تمام پانی کو پی جانا۔ ـ بالشيء چیز کو لے جانا۔

ذاعَ ـِ ذُيُوعًا پھیلنا، گردش کرنا، نشر و اشاعت ہونا، دور تک پھیلنا، افشا ہونا، قبل از وقت معلوم ہونا، بات کا کھل جانا، عام لوگوں کو معلوم ہونا، عام لوگوں کے علم میں ہونا۔ اَذاعَ ه / ب کو پھیلانا، کی نشرواشاعت کرنا، کی اشاعت کرنا، کا اعلان کرنا، کو عوام کے علم میں لانا، کو شائع کرنا، منتشر کرنا، کو دکھانا، فاش کرنا، ظاہر کرنا، واضح کرنا، عیاں کرنا، آشکارا کرنا، صاف صاف دکھانا، کی گواہی دینا، منکشف کرنا، افشا کرنا۔ ه (برقی رویں) چھوڑنا، کو براڈکاسٹ کرنا، ارسال کرنا۔ ه على ریڈیو کا کوئی خبر عوام کے لئے براڈکاسٹ کرنا۔

اَذاعَ بالتلفزة ه کوئی چیز ٹیلی کاسٹ کرنا۔ ذُيُوع دور تک پھیلا ہونا، عام ہونا، پھیلنا، پھیلاؤ، منتشر کرنا یا ہونا، انتشار، نفوذ (خبروں کی) گردش۔ مِذياع جمع مَذَاييع چغل خور، راز افشا کرنے والا، بدگو، غیر دانشمند شخص، ریڈیو سٹیشن، براڈ کاسٹنگ سٹیشن، براڈ کاسٹنگ، مائیکروفون، ریڈیو سیٹ۔ اِذاعة پھیلانا، افشا کرنا، اشاعت اعلان، باضابطہ اعلان، شائع شدہ

(کتاب وغیرہ) اظہار، افشاء، انکشاف، منکشف کرنا، پلے بیک (ٹیپ کا) براڈ کاسٹنگ، ریڈیو جمع اذاعات (ریڈیو) براڈ کاسٹ، ارسال۔ اذاعة تلفزیونیة ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ ٹیلی کاسٹ۔ اذاعة لاسلکیة اور اذاعة رادیو فونیہ ریڈیو براڈ کاسٹ، براڈ کاسٹنگ، ریڈیو۔ اذاعة البولیس پولیس ریڈیو۔ مَحَلَّةُ الاذاعَة ریڈیو میگزین، ریڈیو کا مجلہ۔ ذَائِع دور دور تک پھیلا ہوا، عام، گردش کناں، زیر گردش، بہت لوگوں کو معلوم۔ ذائِع الصیت مشہور، بہت مشہور۔ مُذِیع پھیلانے والا، افشا کرنے والا، اشاعت کرنے والا، اعلان کرنے والا، براڈ کاسٹ کرنے والا، ارسال کرنے والا (ریڈیو) ٹرانسمیٹر، ریڈیو اناؤنسر (اعلان کرنے والا) مُذیعَة جمع مذیعات خاتون اناؤنسر (ریڈیو)

•

ذیف الذَیْفان و الذِیفان و الذیفان زہر قاتل۔

ذیل ذَالَ ۔ ذَیْلاً الثوبُ کپڑے کا اتنا لمبا ہونا کہ زمین کو چھوئے۔ الطائرُ پرندہ کا اپنی دم کو کھینچنا یا پھیلانا۔ الناقة بِذَنَبِها اونٹنی کا اپنی دم کو اپنی رانوں پر پھیلانا۔ ت الجاریةُ لڑکی کا دامن گھسیٹتے ہوئے ناز و انداز سے چلنا۔ فلانٌ اِلی فلان سے گستاخی کرنا۔ ذَیَّلَ الثوبَ کپڑے کو لمبا کرنا۔ الکتابَ کتاب کے آخری میں کچھ لکھنا۔ اَذَالَ اِذالَةً و اَذْیَلَ اِذیالاً الثوبُ کپڑے کا دامن والا ہونا۔ الرجلُ ثوبَهُ کپڑے کا دامن بنانا، دامن کو دراز کرنا۔ المراۃُ قِناعَها عورت کا برقع کو لٹکانا۔ الدمعَ آنسو بہانا۔ تَذَیَّلَ تِ الجاریةُ لڑکی کا دامن کھینچتے ہوئے انداز سے چلنا۔ فی الکلام بغیر جھجکنے کے بہت کلام کرنا۔ الفرسُ فی استنانه ای فی عَدْوِه گھوڑے کا دوڑنے میں خوشی سے دم ہلانا۔ الذَیْل جمع اَذْیال و ذُیُول و اَذْیُل چیز کا آخر کہا جاتا ہے۔ طَالَ ذیلُهُ اس کی حالت اچھی ہوگئی اور مال دولت کی کثرت ہوگئی۔ ذیلُ الثوب کپڑے کا دامن۔ ذیلِ الریح ریت پر ہوا کے نشانات، زمین پر ہوا کی لائی ہوئی خاک۔ الفرس گھوڑے کی دم۔ اَذْیالُ و ذُیُولُ الناس اَدنیٰ درجے کے لوگ۔ الذائِل (ف) دامن والا۔ درعٌ ذائِلٌ او ذائِلةٌ دراز دامن والی زرہ۔ الذَیَّال لمبے دامن والا۔ ثوبٌ مُذَالٌ لمبے دامن والا کپڑا۔ درعٌ مُذالة لمبی زرہ۔ المِذْیَال لمبے دامن والا (مذکر و مونث دونوں کے لئے)۔

۲۔ ذَالَ ۔ ذَیْلاً الشیءُ ادنیٰ ہونا۔ ت حالُهُ پست و فروتر ہونا۔ اَذَالَ اذالَةً و اَذْیَلَ اِذیالاً هُ کی تحقیر کرنا۔ فرسَهُ او غلامَهُ گھوڑے یا غلام کی دیکھ بھال نہ کر کے اس کو لاغر و دبلا کرنا۔ مالَهُ کا مال خرچ کرنا۔ تَذَایَلَ ت حالُهُ کی حالت کا پست و فروتر ہونا۔ الذُیُل جمع اذیال و ذُیُول و اَذْیُل حقیر حیثیت کہا جاتا ہے۔ هو فی ذیلٍ ذائِل وہ سخت حقیر حالت میں ہے۔ المُذَالَة باندی، لونڈی مثل ہے۔ اخیلُ من مذالة باندی سے زیادہ متکبر۔

۳۔ ارضٌ مُذَیَّلة وہ زمین جس پر ہلکی سے بارش ہوئی ہو۔

○ ذَیَّلَ ہ (خصوصاً کتاب) کتاب میں ضمیمہ یا تتمہ لگانا، کا اضافہ کرنا۔ ہ کے ساتھ آخر میں کوئی چیز لگانا۔ اَذَالَ ہ کو روندنا، پامال کرنا، کو کم رتبہ کرنا، کو بے قدر کرنا۔ ذیل جمع ذُیُول و اَذیال چیز کا سب سے نیچے یا پیچھے کا حصہ۔ نچلا سرا، دم، سنجاف، مغزی، گوٹ، جھالر، حاشیہ، کنارہ (کپڑے کا) پوشاک کا دامن، شملہ، دنبالہ، کوٹ کے گریبان کی لوٹ (صفحہ کا) نچلا حصہ۔ تتمہ، ضمیمہ، اضافہ، ذیل، ملحقات، نوکر چاکر، خدم و حشم، نتیجہ۔ فی ذیله اس کے فوراً بعد۔ طاهر الذیل معصوم، بے قصور، بے گناہ، دیانتدار۔ طهارة الذیل بے گناہی، معصومیت اخلاقی، دیانت داری، ایمانداری۔ طویلُ الذیل لمبا، طویل دور تک پھیلا ہوا، بڑا، پورا۔ تَمَسَّكَ باذیاله کا دامن پکڑنا۔ جرّ علیه ذیلَ العفاء کا نام و نشان مٹا ڈالنا۔ لاذ باذیال الشیء کسی چیز سے رجوع کرنا۔

ذام: ذَامَ ۔ ذَیْماً و ذاماً هُ پر عیب لگانا، کی مذمت کرنا صفت۔ مَذِیم و مَذْیُوم۔ الذام و الذَیْم عیب مذمت نقص، برائی۔

ذین: الذِین عیب۔

ر

تلفظ الراء۔ حروف تہجی کا دسواں حرف اور حروف ابجد میں ۲۰۰ سے عبارت ہے۔

راب ا رأب رأبا الصدع ترخن کی مرمت کرنا، اصلاح کرنا، شگاف پر کرنا۔الشیء کو جمع کرکے نرمی سے باندھنا۔ بینھم کے درمیان صلح کرانا۔ ارتأب ارتأبا الصدع ترخن کی مرمت کرنا، اصلاح کرنا، شگاف پُر کرنا۔الرأب (مص) جمع رئاب ترخن، شگاف، پھٹن، سردار۔ کہا جاتا ہے: کفی فلان رأبا لامرك تمہارے کام کی درستی کے لئے فلاں شخص کافی ہے۔الرؤبة جمع رئاب و رؤباب لکڑی وغیرہ کا ٹکڑا، وہ چیز جس سے کسی چیز کی پھٹن کو درست کیا جائے، شگاف پاٹا جائے۔ الرئاب اصلاح کرنے والا۔ کہا جاتا ہے هو رئاب بني فلان وہ فلاں قبیلہ کا مصلح ہے۔المرأب کاروں، موٹر سائیکلوں کا ورکشاپ، یا ان کی مرمت گاہ، گیراج، موٹر خانہ۔

۲۔رأب رأبات الارض سبزی کاٹنے کے بعد زمین کا سرسبز ہونا۔

۳۔الرؤبة جمع رئاب و رؤبات گاڑھا دودھ، رات کی گذری ہوئی ایک گھڑی۔

۴۔رأبل رأبلة چلنے میں ایک طرف جھکنا۔ترأبل القوم چوری کا پیشہ اختیار کرنا۔ علیه پر غارت ڈالنا، شیر کا سا فعل کرنا (یعنی شیر کی طرح حملہ کرنا)۔الرئبال و الريبال جمع رآبيل و رآبل و رآبلة و ريابيل (ح) شیر۔ (ح): بھیڑیا۔

○ راء حرف "ر" کا نام۔

○ رئة جمع رئون و رئات پھیپھڑا۔ رئوی پھیپھڑوں کا، شش، شش کی خرابی یا ورم شش کا، نمونیائی، پھیپھڑوں سے متعلق۔

○ رأب رئباه شگاف وغیرہ کی مرمت کرنا، کار وغیرہ کو جوڑ جاڑ کر ٹھیک کر لینا، کی تصحیح کرنا، کو ترتیب سے لگانا، سیدھا کرنا۔ رؤبة: ٹکڑا (شگاف وغیرہ کی مرمت کرنے کے لئے)۔مرأب جمع مرائب مرمت کرنے کی دوکان، موٹر خانہ، گیراج۔

○ رابور رپورٹ۔

رات الراتينج (ك). گندہ بروزہ، بروزہ، صنوبر کا گوند۔

رود. ا رؤد - رؤودة الغصن: شاخ کا بہت ترا ور نازک ہونا۔ صفت رؤد۔ ترأدت الريح: ہوا کا ادھر ادھر چلنا۔ الرجل: بوڑھے آدمی کا اٹھنے میں کانپنا۔ و ارتأد الغلام: خوشی سے لڑکے کا ہلنا۔ ۔الغصن: شاخ کا جھکنا۔ العنق: گردن کا پیچ کھانا۔الرأد و الرأدة والرؤدة و الرؤودة: جوان حسین عورت۔ الرؤد. جوان حسین عورت، مزاج کی نزاکت، سہولت، نرمی۔الرئد جمع ارآد: نئی شاخ یا نرم شاخ (درخت یا پودے کی)۔

۲۔ترأد و ترأد الضحى روشنی کا پھیلنا، دن چڑھنا۔رأد و رائد الضحى چاشت، آفتاب کے بلند ہونے اور روشنی پھیلنے کا وقت۔

۳۔الرؤد و الرأد: کان کے نیچے جبڑے کی اٹھی ہوئی ہڈی۔الرئد جمع أرآد: ہم عمر۔ کہا جاتا ہے هذا رئدي: یہ میری عمر کا ہے۔

۴۔الراديولا (ن). کتان جیسے ایک پودے کی جنس۔

○ رؤد: نرم، نازک۔رؤد و فتاة رؤد: نازک بدن نوجوان لڑکی۔رئد جمع ارآد ہم عمر، ہم عصر۔

○ رادار رڈار، لاسلکی آنکھ (radar)

○ راديكالي: انتہا پسندانہ، انتہا پسند گروہ کا رکن۔

○ راديو: ریڈیو۔

○ راديولوجي. تاب کاری طب۔

○ راديوم: ریڈیم۔ ذو راديوم فاعل: تابکار۔

رار: رأرأ: پتلی پھرانا، تیز دیکھنا۔ بعينيه: آنکھوں کو حرکت دینا اور گھمانا۔ صفت رأرأ مونث رأرأ و رأرأة و رأراء و رأراءة۔ ۔ت الظباء: ہرنیوں کا دم ہلانا۔ السحاب او السراب: بادل یا سراب کا چمکنا۔ الرجل: پڑھتے اور بولتے ہوئے حرف راء زیادہ بولنا۔

○ رأرأ بعينيه: آنکھیں گھمانا، مٹکانا۔

رأس: ا رأس - رئاسة القوم: قوم کا سردار ہونا۔ رؤس - رئاسة: سردار ہونا۔رأسه: کو سردار بنانا۔ترأس و ارتأس: سردار ہونا۔الرأس: قوم کا سردار۔الرائس (فا) جمع رؤاس: حاکم۔ الرئيس جمع رؤساء: قوم کا سردار، پیشوا۔(اع): فوجی رتبہ جو نقیب کے برابر ہے، کیپٹن (آرمی کا)، لفٹیننٹ (بحریہ کا)۔الرئيس جمع رؤساء: قوم کا سردار، پیشوا۔(مو): دوتالی یا نسری۔الرئيس: مضبوط سرداری والا۔المرؤوس: ماتحت (سردار کا)۔

۲۔رأس - رأسا ه: کے سر پر مارنا۔رئس: سر میں تکلیف محسوس کرنا۔ارتأسه: کو گردن سے پکڑ کر اسے زمین کی طرف جھکانا۔ الشيء: کے سر پر سوار ہونا۔الرأس جمع أرؤس و رؤوس و رؤس و آراس (ع ا): سر (انسان یا جانور کا)، مویشی۔ (چنانچہ کہا جاتا ہے اربعون رأسا من الغنم چالیس راس مویشی)، چیز کا سب سے بلند حصہ۔ او ما يسمونه بالبنجق (مو) بریلا کی

گردن کے بعد پچھلی طرف پھینکی ہوئی برچھی کی شکل کا آخری جزء۔راس الشھر او العام: مہینہ یا سال کا پہلا دن۔کہا جاتا ہے فعلہ راساً: اس نے اس کو ابتداء میں کیا۔ولدت ثلاثۃً راساً علی راسٍ اسی نے تین بچے یکے بعد دیگرے جنے۔ رُمیتُ منک فی الراسِ: میرے متعلق تمہاری رائے اس قدر بری ہے کہ تم میری طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ھذا قِسمٌ براسِہ یہ خود مستقل ایک قسم ہے۔ انت علی راس امرك. تم اپنے کام کے سرے پر ہو۔رِئاسُ السیف کا قبضہ۔کہا جاتا ہے انت علی رِئاسِ امرك تو اپنے کام کے سرے پر ہے۔ الرَئیس زخمی سروالا یا سر کی تڑکی ہوئی ہڈی والا۔ الرُؤَیس (ن) پھول اور شگوفے نکلنے کے نظام کی ایک شکل۔الأَرْأَس مونث رَأساء. بڑے سر والا۔ الرَأّس سریاں بیچنے والا۔المِرْآس من الخیل: گھڑ دوڑ میں دوسرے گھوڑوں کے سروں کو کاٹنے والا گھوڑا، گھڑ دوڑ میں سبقت لیجانے والا گھوڑا۔ المَرْؤُوس: بڑے سر والا، زخمی سر والا۔المرَوائِس واحد رَئیسَۃ اگلے بادل، وادیوں کے بالائی حصے۔ الرُؤَاسِیَ بڑے سروالا۔

۳۔رَأَسَ - رَأْسًا السیلُ الغُثاءَ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ جمع کرنا۔

○ رَأُسَ - رِئاسَۃً ہ: کا سربراہ ہونا، صدر ہونا، صدر جلسہ ہونا، کرسی نشین ہونا، نگران ہونا، کی صدارت کرنا، کا سردار ہونا، صدر ہونا (کسی جماعت کا) امیر ہونا، کی راہنمائی کرنا، کا اہتمام کرنا، کی ہدایت کاری کرنا، کا انتظام کرنا، کو چلانا، کا بندوبست کرنا۔رَؤُس - سردار ہونا، صدر ہونا، راہنما ہونا۔رَأَسَ ہُ: کو بطور صدر، رہنما، سردار حاکم، امیر یا بڑا افسر مقرر کرنا، کو ہدایت کار یا رہنما بنانا، کو ہدایت کاری انتظام وانصرام میر مجلسی یا عہدہ صدارت سونپنا۔تَرَأَّس: بمعنی رَأَسَ۔ اِئْتَرَسَ: سردار، رہنما، حاکم، امیر ہونا یا بن جانا، سربراہ، یا ہدایت کار یا ڈائریکٹر ہونا یا بن جانا۔

رَأس (مذکر و مؤنث) جمع رُؤُوس و ارؤُس: سر، راس (چوپایہ کا)، سردار، مکھیا، سالار، سرخیل، قائد، فوجی سردار، ڈاکوؤں کا سرغنہ، سربراہ رہنما، بالائی حصہ، بالائی سرا، نوک، چوٹی، سب سے بلند حصہ، راس، مثلث کا راس، چندیا، حد، انتہا، کنارا، خاتمہ، اختتام، انجام۔ سمندر میں دور تک گئی ہوئی چٹان، گردنہ، بڑا حصہ، شروع، آغاز۔رأسًا براہ راست، فی الفور، اک دم، اسی وقت، فوراً، بلا تاخیر۔براسہ مستقل، بالکل الگ، بجائے خود ایک درجہ میں، خود مکتفی۔عِلمٌ براسہ. سائنس بجائے خود، بذاتہ یا بنفسہ۔راس بِراسٍ (دونوں) یکساں، ایک ہی طرح، ایک دوسرے کی طرح، بلا امتیاز۔علی راسِ: کے سرفہرست، کے خاتمہ پر، کے شروع میں، سے پہلے۔علی الراسِ و العین بڑی خوشی سے، جیسا آپ چاہیں، خدمت کے لئے تیار، حاضر۔علی رُؤُوس الاشھاد: کھلم کھلا، علی الاعلان، ساری دنیا کے سامنے۔راسًا علی عَقِبٍ. بالکل الٹا، اوندھا، الٹ پلٹ، درہم برہم، ابتری افراتفری۔قَلَبَہُ راسًا علی عقب: کسی چیز کو بالکل الٹا یا اوندھا کر دینا، کو درہم برہم کردینا۔من الراسِ اِلی القدم یا من الراس اِلی اَخمصِ القدم: سر سے پاؤں تک، از سرتاپا۔رفع بہ راساً: کی طرف توجہ کرنا۔راسُ الآفات برائی کی جڑ۔راس مال جمع رُؤُوس اموال: سرمایہ۔راس تَنُّورۃ: تیل کا مرکز (مشرقی سعودی عربیہ میں)۔راسُ ثُوم: لہسن کی پوتھی۔ راسُ الجِسر. سرحدی دریا کے پار دشمن کے علاقہ میں بنا ہوا مورچہ۔راس حَامِیَۃ جوشیلا شخص، تیز مزاج، چلتا پرزہ، دلیر، عاقبت نااندیش، مفسد، فتنہ انگیز۔راسُ السنۃ: نیا سال۔راسُ العمود: ستون یا چوکور ستون کا بالائی حصہ۔راسُ الکتاب: خط پر اپنا چھپا ہوا پتہ، خط لکھنے کا کاغذ جس پر اپنا پتہ چھپا ہوا ہو۔مَسقَطُ الراس: جائے پیدائش، آبائی شہر، قصبہ، گاؤں وغیرہ۔سَمْتُ الراس: سمت الراس، پورا عروج۔المبلد الراس: دارالحکومت۔رُؤُوسُ الاصابع: پیر کی انگلیوں کا اگلا حصہ۔راسی: سر کا، سر کے متعلق، بڑا، خاص، اول، اعلی، سیدھا، کھڑا، عمودی مستقیم۔راسمالی: ساہوکارانہ، سرمایہ دارانہ جمع اسمالیون: ساہوکار، سرمایہ دار، دھنی، پونجی والا۔راسمالیۃ: سرمایہ داری، سرمایہ داری کے اصول۔ رئیس جمع رُؤَساء: سربراہ، نگران، سرگروہ، پیشوا، سردار، رئیس، صدر، رہنما، آقا، مالک، حاکم، افسر، ڈائریکٹر، ہیڈ ماسٹر، پرنسپل، چیئرمین، گورنر، پریذیڈنٹ، منیجر، سپرنٹنڈنٹ، بینڈ ماسٹر، بڑا، بالاتر، کیپٹن (عسکری) رئیس اول: فوجی رتبہ کیپٹن اور میجر کے درمیان کا۔ رئیس الأساقِفَۃ: لاٹ پادری۔رئیس البلدیۃ: میئر۔رئیس التحریر ایڈیٹر انچیف۔رئیس ارکان الحرب: چیف آف جنرل اسٹاف۔رئیس التشریفات. چیف آف پروٹوکول، ماسٹر آف سیریمنیز۔ رئیس الشمامسۃ archdeacon، آرچ ڈیکن (اسقف سے نیچے)۔رئیس عُرَفاء ماسٹر سارجنٹ۔رئیس الأَقسام: (ریلوے میں) ٹیکنیکل ڈائریکٹر جنرل۔رئیسُ النُوّاب پارلیمنٹ کا پریذیڈنٹ، ایوان زیریں کا سپیکر۔رئیسُ ھیئۃِ ارکان الحرب: چیف آف جنرل اسٹاف۔رَئیسُ الوزراء: وزیراعظم۔رئیسُ الوزارۃ وزیراعظم۔ رَئیسۃ: خاتون منیجر، خاتون ڈائریکٹر، زنانہ مذہبی گروہ کی سربراہ۔رَئیسی. بڑا، خاص، اہم ترین۔ دَوْرٌ رئیسی: ہیروئن کا کردار، ہیرو کا کردار۔سبب رئیسی: بڑا یا اہم مقصد یا نصب العین، بڑی وجہ۔شارِعٌ رَئیسی: بڑی سڑک۔الفضائل الرئیسیۃ: اصلی نیکیاں۔مقالۃ رَئیسِیۃ: ایڈیٹوریل، افتتاحیہ، اہم مضمون، مقالہ افتتاحیہ۔رَیِّس، بمعنی رئیس: (بحریہ کا) میٹ (کیپٹن سے نچلے درجہ کا)۔رَیِّس مُمْتَاز: درجہ سوم کا چھوٹا افسر، (بحری فوج میں)۔

رِئاسَۃ و رِیاسَۃ (نیز رآسۃ): قیادت، رہنمائی، رہبری، قیادی حیثیت، بندوبست، انتظام، دیکھ بھال، ڈائرکشن، میر مجلسی، عہدۂ صدارت، منصب صدارت، نگرانی۔رئاسۃ الوزراء: وزیراعظم کا عہدہ۔ مدار الہام کا عہدہ۔دارُ الرِیاسَۃ: ایوانِ صدر۔تَرَؤُّس انتظام، بندوبست، دیکھ بھال، ڈائریکشن، میر مجلسی، عہدۂ صدارت۔رَوَائِس: وادی کی کھڑی چٹانیں۔ مَرْؤُوس: ماتحت، جمع مَرْؤُوسُون: ماتحت، سبالٹرن، لفٹنن، لفٹیننٹ۔

راف: رَأَفَ - رَأْفَۃً و رَؤُف - رَآفَۃً و رَئِفَ - رَأَفاً و تَرَأَّفَ بہ: پر بہت مہربانی کرنا۔صفت رَؤُوف و رَؤُف و رَأُف و رَئُف و رَائِف۔ رَأَّفَ و اِستَرْأَفَ ہُ: کو منانا، راضی کرنا، رحم کرنے پر اکسانا۔تَرَاَفُوا ایک دوسرے پر مہربانی کرنا۔المرأَف. شراب۔

○ رَأَفَ - و رَؤُفَ - رَأْفَۃً و رَآفَۃً ب: پر مہربانی کا اظہار کرنا، مصیبت میں کسی کے کام آنا یا اس کی مدد کرنا، پر مہربانی کرنا، مہربان ہونا، رحیم و کریم ہونا۔تَرَأَّف بمعنی راف بہ۔رَأْفَۃ و رَآفۃ رحم، ترس، مہربانی، نوازش، کرم۔رَؤُوف: رحم کرنے والا، مہربان، رحیم و کریم، رحم دل، ترس کھانے والا، فیض رساں۔ اَرْأَف: زیادہ مہربان، زیادہ رحیم و کریم۔ب. پر، کے بارے میں)

○ رَأْفِیا: ایک قسم کی کھجور کے درخت کے پتوں کا لمبا اور پتلا مواد جو چٹائیاں وغیرہ بننے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

المِسْتَرْأَلَ الرَأْلُ: شترمرغ کے بچے کا مضبوط

ہونا۔ ـــ النبات سبزی کا دراز ہونا، نباتات کا اونچا ہونا۔ الرَأْلُ مؤنث رَألَة جمع رِئال و أرْؤُل و رِئلان و رِئالة (ح) شتر مرغ کا بچہ۔ نعامة مُرْئِلَة بچے والی مادہ شتر مرغ۔ المُرائِل جلدی کرنے والا۔

٣- الرُؤال گھوڑے کے منہ کی جھاگ۔ الرائِل و الراؤُول دانت کے پیچھے زائد نکلا ہوا دانت، ٹیڑھا دانت۔

رام ١- رَأَم - رَأْماً القدحَ تیر کی چھڑ یا تیر کو درست کرنا، کی اصلاح کرنا یا مرمت کرنا۔ رَئِم - رَأْماً و رِئماناً الجرحُ زخم کا انگور بندھنا۔ أرْأَمَ إرْآماً الجرحَ زخم کو علاج کر کے اچھا کرنا۔

٢- رَأَمَ رَأْماً الحبلَ رسی کو مضبوط بٹنا۔ أرْأَمَ إرْآماً الحبلَ رسی کو مضبوط بٹنا۔

٣- رَئِم - رَأْماً و رِئماناً الشيءَ سے محبت کرنا، الفت کرنا۔ ـــ تِ الناقةُ ولدَها اونٹنی کا اپنے بچے پر مہربان ہونا صفت: رائِم و رائِمة و رَؤُوم جمع روائِم۔ مثل ہے: ظِئْرٌ رَؤُومٌ خيرٌ من أمٍّ سَؤُوم اجنبی دودھ پلانے والی جو دودھ پینے والے بچہ پر مہربان ہو اس ماں سے بہتر ہے جو اپنے بچے سے اکتا جائے اور اس کی پرورش نہ کرے۔ کہتے ہیں: هو رَؤُومٌ للضيم وہ ذلیل ہے اور ذلت پر راضی ہو جانے والا ہے۔ أرْأَمَ إرْآماً الناقةَ اونٹنی سے دوسری کے بچے سے محبت کرانا۔ ـــ هُ على الأمر کو کسی کام پر مجبور کرنا۔ تَرَأَّمَهُ و تَرَأَّمَ عليه پر رحم کرنا، مہربانی کرنا۔ الروائم چولہے کے پتھر۔

٤- الرِئم مؤنث رِئمة جمع أرْآم و آرام (ح) سفید ہرن۔ الرُؤام لعاب۔

○ رَأَمَ رَأْماً هٗ کی مرمت کرنا۔ رَئِمَ - رِئماناً هٗ سے شفقت کے ساتھ محبت کرنا، بے حد پیار کرنا، کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، کے ساتھ محبت سے کھیلنا، کو پچکارنا، سے پیار کرنا، پر ہاتھ پھیرنا، کو سینے سے لگانا۔ رِئم جمع أرْآم سفید آہو کی ایک قسم۔ رَؤُوم اپنے بچے کے ساتھ محبت کرنے والی، شفیق (ماں)۔ رام الله: مغربی اردن کے ایک شہر کا نام جو یروشلم کے شمال میں واقع ہے۔

○ رامِية: چینی پٹ سن۔

○ راوَنْد: جھگڑا، گرما گرمی۔ (٢) باغوں کا ایک پودا جس کی ڈنڈیاں موٹی اور سرخ ہوتی ہیں اور پکا کر پھل کی طرح کھائی جاتی ہیں۔ (٣) ایک لفظ جسے اکٹروں کا ایک گروہ سٹیج پر دہراتا ہے، تاکہ ایسا تاثر دیں کہ بہت سے لوگ بیک وقت بول رہے ہیں۔

رای ١- رأى يرى رَأْياً و رُؤْيَةً و راءَةً و رِئياناً: آنکھ یا عقل سے دیکھنا۔ يَرى اصل میں يَرْأى ہے، تاہم اصل کا استعمال نادر ہے۔ اس سے امر کا صیغہ رَ ہے۔ ـــ رَأْياً الرايةَ جھنڈا گاڑنا۔ ـــ الزَنْدَ چقماق سے آگ روشن کرنا۔ ـــ الزَنْدُ: چقماق سے آگ روشن ہونا۔ کہا جاتا ہے: يا تُرى و يا هل تُرى يعني يا رجل هل ترى و تظن جس کا معنی ہے اے شخص کیا تو یہ خیال کرتا اور گمان کرتا ہے۔ رای بمعنی ظن کا مضارع صرف مجہول دیکھنے میں آیا ہے۔ راءَ الشيءَ بمعنی رأى الشيء ہے۔ رَأَيْتُه تَرْئِيَةً میں اس کو اپنا آپ اصل کے خلاف دکھانا۔ راءَيْتُه مُراءاةً و رِئاءً کو خلاف حقیقت دکھانا، سے مشاورت کرنا۔ أرَى - إراءَةً و إراءَةً کو دکھانا، سے مشورہ کرنا۔ صفت: مُرٍ مؤنث مُرِيَة کہا جاتا ہے: أرِني برأيك مجھے مشورہ دو۔ أرى اللهُ بفلان اللہ کا کسی کو قابل عبرت عذاب دینا اور اس کے دشمن کی خوشی کا سامان مہیا کرنا۔ أرْأى إرْءاءً صاحب رائے و عقل ہونا، کے چہرہ سے حماقت ٹپکنا، دکھاوا کرنا، آئینہ میں دیکھنا، بہت خواب دیکھنا، دیکھتے ہوئے پلکیں ہلانا۔ ـــ تِ الحامل من غير ذوات الحافر و السبع غیر کھر و سم والے جانوروں اور درندوں کی حاملہ کے تھنوں سے اس کا حمل والی معلوم ہونا۔ صفت: مُرْءٍ و مُرْئِية۔ ـــ الرايةَ جھنڈا گاڑنا۔ تَرَأّى و تَراءى في المرآة آئینہ میں دیکھنا۔ ـــ لهٗ دیکھنے کے در پے ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَرَأّى برأي فلان وہ فلاں شخص کی رائے پر چلا۔ تَراءى الناسُ ایک دوسرے کو دیکھنا۔ کہا جاتا ہے: تَراءَينا في الأمر ہم نے معاملہ میں غور و خوض کیا۔ تَراءى لي ان الأمرَ كيتَ و كيتَ مجھ پر ظاہر ہوا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے۔ تَراءَينا الهلالَ ہم نے ہلال کو دیکھنا ظاہر کیا۔ إرْتَأى الأمرَ معاملہ پر غور کرنا، پر شک کرنا، پر تدبر کرنا۔ إسْتَرْأى هٗ: کو دیکھنے کی خواہش کرنا، کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا، کی رائے طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے: إسْتَرْأَيْتُهٗ و إسْتَرْيَتُهٗ میں نے اس کو دیکھنے کا مطالبہ کیا یا اس کی رائے طلب کی۔ ـــ بالمرآة آئینہ سے دیکھنا۔ الرَأْي جمع آراء و أرْآء رائے، اعتقاد۔ (آپ کہتے ہیں: رَأْيي كذا میری رائے یا اعتقاد یہ ہے)، صحت تدبیر۔ ـــ الدَبَرِيّ حاجت کے بعد سوجھنے والی رائے۔ ـــ الفَطِير بدیہی رائے جو بغیر سوچے اور غور کئے دی جائے۔ الرِئْي و الرُئِيّ و الرُؤاء و الرِيّ: منظر، منظر کا حسن۔ الرَئِيّ نظر آنے اور محبت کیا جانے والا جن۔ کہا جاتا ہے: به رَئِيٌّ من الجنّ: اس پر جن کا سایہ ہے۔ رَئِيُّ القوم: وہ شخص جس کی رائے سے لوگ رجوع کریں۔ الرِئاء (مص): دکھاوا۔ کہا جاتا ہے: فعل ذلك رِئاءً اس نے یہ جو کیا دکھاوے کے طور پر کیا۔ هُمْ رِئْءُ الفٍ: وہ ایک ہزار کے قریب ہیں۔ قومٌ رِئاءٌ: ایک دوسرے کو ملنے والے لوگ۔ دُورُنا رِئاءٌ: ہمارے گھر ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں۔ الرُؤْيا جمع رُؤًى: خواب۔ ـــ والرَأْيا کہا جاتا ہے: جاء حين جَنَّ رُؤْيا و رَأْيا وہ اس وقت آیا جب ایسی تاریکی چھا گئی تھی جس نے دیکھنے سے باز رکھا۔ الرُؤْيَة جمع رُؤًى: آنکھ یا دل کی نظر۔ الرِيَّة: آنکھ یا دل کی نظر۔ التَرْئِيَة: منظر یا حسن منظر۔ الرَءّاء: بہت دیکھنے والا (آنکھ یا دل سے)۔ المَرْأى و المَرْآة منظر۔ کہا جاتا ہے: هو مني مرأى ومَسْمَعٌ او بمرأى و مَسْمَع: وہ ایسی جگہ ہے جہاں میں اسے دیکھ بھی سکتا ہوں اور سن بھی سکتا ہوں۔ تُخبِرُ عن مَجْهُولِهِ مَرْآتُهُ: اس کا ظاہر اس کے باطن کی ترجمانی کرتا ہے۔ المِرْآة جمع مَرَاءٍ و مَرَايا: آئینہ۔ اس سے فعل بھی آتا ہے جو يَتَمَرْأى ہے۔ اس کا معنی ہے: وہ پانی میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے (سیبویہ سے منقول ہے)۔

٢- رَأَى - رَأْياً الرجلَ کے پھیپھڑے پر مارنا۔ أرْأى إرْءاءً: پھیپھڑوں کی شکایت رکھنا۔ الرِئَة جمع رِئات و رِؤُن پھیپھڑا۔ رِئَوِيّ پھیپھڑوں کا، پھیپھڑوں سے متعلق۔

٣- أرْأى. لائق۔ کہا جاتا ہے: هو أرْأى بكذا: وہ اس کے لائق ہے۔ المَرْآة لائق۔ کہا جاتا ہے: هو مَرْآةٌ بكذا: وہ اس کے لائق ہے۔ المِرْآة (مو)۔ سارنگی کا ایک آلہ۔

○ رَأى يَرى رَأْياً و رُؤْيَةً ہ: کو دیکھنا، سمجھ لینا، دریافت کر لینا، معلوم کرنا، حواس سے معلوم کرنا، کا ادراک کرنا، کو سمجھنا، بوجھنا، پر غور کرنا، دھیان کرنا، کا مشاہدہ کرنا۔ ـ ہ ہ کو کچھ خیال کرنا، کو کچھ سمجھنا۔ ـــ ان: کی یہ رائے ہونا کہ، یقین کرنا کہ، سمجھنا کہ۔ ـ اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ ـ ان محسوس کرنا کہ، ـــ ہ کو مناسب سمجھنا، موزوں سمجھنا۔ ـــ ہ کو چننا۔ ـ ان کو کرنے کا فیصلہ کرنا۔ ـ غور کرنا، غور سے دیکھنا۔ أرَأيْتَ: مجھے بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے۔

رَأَى رَأَىَ العین: اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ رَأَى رُؤْیاً خواب دیکھنا۔ رَأَى منه العَجَبَ پر متحیر ہونا۔ رَأَى للشیء فائدةً سے کچھ فائدہ کی توقع کرنا۔ رَأَى من واجبه اپنا فرض سمجھنا، خود پر واجب سمجھنا۔ رَأَى له ان خیال کرنا کہ یہ کسی کے مفاد میں ہوگا کہ۔ رَأَى رَأْیَهُ کسی کی رائے میں شریک ہونا۔ رُوِیَ ان فیصلہ ہوا کہ۔ رُؤِیَ الشیء: ایسا کرنا مناسب محسوس کیا گیا، خیال کیا گیا کہ یہ کرنے کی صحیح چیز ہے۔ رَاءَ دکھاوے کیطور پر کرنا، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا، دکھاوا کرنا۔ ـ ہ سے منافقت کرنا، ریاکاری کرنا، فریب کاری کرنا، کو دھوکا دینا۔ اَرَى ہ کو کچھ دکھانا۔ یا اُتریَ؟: تمہاری کیا رائے ہے؟، کیا تم کہو گے، مجھے تعجب ہے۔ مَتَی یُریٰ نہ جانے کب۔ تُرَی هَلْ مجھے تعجب ہے اگر، کیا تم کہو گے؟ اُتُراها جاءَت مجھے تعجب ہے اگر وہ آگئی ہے، کیا تم کہو گے کہ وہ آگئی ہے؟ تَرَأَى خیال کرنا، یقین کرنا، سمجھنا۔ تَراءَى لِ کو نظر آنے لگنا، کو مناسب معلوم ہونا، کو لگنا، کو درست لگنا، کو مناسب معلوم ہونا، کو مناسب خیال کرنا۔ ـ ایک دوسرے کو دیکھنا، اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھنا، منافقت کرنا۔ ـ ب کسی چیز کو ملمع کر کے پیش کرنا، کو گھڑنا، کو جھوٹ موٹ ظاہر کرنا۔ اِرْتَأَى ہ پر غور کرنا، کو سوچنا۔ ـ ان: کی رائے ہونا کہ، فیصلہ کرنا کہ۔ اِرتَأَى رایاً: ایک رائے رکھنا۔ اِرْتَأَى رایَهُ: کی رای میں شریک ہونا۔ رَأْی جمع آراء: رائے، خیال، تصور، گمان، ذہنی صورت یا شکل، صلاح، نصیحت، مشورہ، تجویز، تصویر خیال، موضوعی، داخلی یا غیر حقیقت پسندانہ رائے، کسی فرد کی سمجھ پر مبنی فیصلہ۔ فی رَأْیِیْ اور عِنْدَ رَأْیِیْ میری رائے میں: انا من هذا الرَأی: میری رائے یہ ہے۔ من رأیهِ ان اسکی رائے ہے کہ۔ اُخِذَ الرَأیُ علی: پر رائے شماری کی گئی، پر (معاملہ) پر ووٹ لئے گئے۔ لم یکن عِندَ رایهم: وہ وہ نہ تھا جس کی ان کو توقع تھی۔ لم یکن له فیه رَأْیٌ اس معاملہ میں شامل ہونے کا اسے کوئی حق نہ تھا۔ الرَأی العام: رائے عامہ۔ ذُو الرَأیِ جمع ذَوُو الآراء ہوشمند، زیرک، معاملہ فہم، سوجھ بوجھ والا، صاحب بصیرت، باخبر، واقف حال، ذہین، فہیم، حقیقت، آشنا۔ تَبادُلُ الآراء تبادلہ خیالات۔ صُلْبُ الرأی ضدی، ہٹ کا پکا، ہٹ دھرم، ہٹیلا، منہ زور، اپنے رائے سے نہ ہٹنے والا، خود رائے۔ قِسمُ الرَأیِ ماہرین کی کمیٹی، قانونی اور اقتصادی امور پر کونسل (وزارتوں سے ملحق): رَایَة جمع رایات جھنڈا، پرچم، پھریرا۔ رُؤْیَة: دیکھنا، معائنہ، امتحان، جائزہ۔ رُؤْیا جمع رُؤًى خواب، تصور۔ سِفْرُ الرُؤْیا: الہام بالخصوص وہ جو یوحنا کو جزیرہ پتموس میں ہوا۔ مَرْأًى: نظر، نظارہ، منظر، سایہ، وہمی صورت، بھوت، آسیب۔ علی مَرْأًى مِن کی آنکھوں کے سامنے۔ علی مَرْأًى وَمَسْمَعٍ مِن: کی آنکھوں اور کانوں کے سامنے، کے مکمل علم میں۔ مِرْآة جمع مَرَاءٍ و مَرَایا: آئینہ، عکس، انعکاس، منعکس صورت، خیالی تصویر۔ مِرَایَة جمع مِرایات: آئینہ۔ رِئَاء و رِیَاء: دکھاوا، ریا، فریب، مکر، حیلہ سازی، زمانہ سازی، ریاکاری، مکر۔ ـ ب: کی بناوٹ، نقل۔ رَاءٍ دیکھنے والا، تماشائی، ناظر، مشاہدہ کرنے والا۔ رَائِیَة جمع رَائِیات کیمرہ کی دوربین۔ مَرْئِیّ: دیکھا ہوا، جو آنکھوں کے سامنے ہو، جو دیکھا جا سکے۔ المَرْئِیَات آنکھوں کے سامنے کی چیزیں۔ مرئی دنیا مُرَاءٍ جمع مُرَاؤُون منافق، ریاکار۔ رای: مصری سامن مچھلی کی ایک قسم (Salmon)۔

رب: ۱۔ رَبَّ ۔ رَبًّا القومَ: قوم پر برتری حاصل کر کے اس پر سیاست کرنا۔ ـ الشیءَ: کا مالک ہونا۔ تَرَبَّبَ الارضَ: زمین کا دعویدار ہونا، تم کہتے ہو: رَأَیْتُهُ یَتَرَبَّبُ اَرْضَكُم میں نے اسے دیکھا کہ تمہاری زمین پر اپنی ملکیت کا دعوی کرتا تھا۔ الرَبّ (مص) جمع اَرْبَاب و رُبُوب: سردار، مالک، اللہ تعالیٰ کا ایک نام۔ رَبِّی و رَبَّانِیّ و رُبُوبِی: رب کا، رب کے متعلق۔ الرَبَّة: رب کا مونث، عورت کی شکل کا بت جیسے لات کا بت۔ المَرْبَبَة مملکت۔ الرُبّان جمع رَبَابِنَة و رَبَابِین ملاحوں کا سردار۔ الرِبَابَة: سرداری۔ مملکت۔ المَرْبُوب مملوک، غلام۔ الرُبَّانِیّ ملاحوں کا سردار۔ الرَبَّانِیّ ربی، لاٹ، پادری، عارف ربانی۔

۲۔ رَبَّ ۔ رَبًّا الامرَ کسی کام کو درست کرنا۔ ـ و رَبَّبَ تَرْبِیبًا و تَرِبَّةً و اِرْتَبَّ اِرْتِبابًا الولد لڑکے کو بالغ ہونے تک پالنا۔ تَرَبَّبَ الصبیَّ بچہ کو بالغ ہونے تک پالنا۔ الرَبّ (مص) جمع اَرْبَاب و رُبُوب مصلح، اصلاح کرنے والا۔ الرَابّ: سوتیلا باپ۔ الرُبَّى وہ بکری جس نے بچہ جنا ہو یا اس کا بچہ مر گیا ہو۔ حال ہی میں بچہ جننے والی بکری۔ الرَابَّة سوتیلی ماں۔ الرَبِیب و الرَبُوب جمع اَرِبَّة سوتیلا باب، سوتیلا لڑکا۔ الرِبَاب و الرِبَابَة: عہد (کُنتُ امراءً افضت الیك رِبَابَتِی) المَرْبُوب: پالا ہوا۔ الربیبة جمع رَبائِب: دایہ، بیوی کی لڑکی، سوتیلی ماں۔

۳۔ رَبَّ ۔ رَبًّا النعمةَ: نعمت زیادہ کرنا۔ الرُبَّی: نعمت، احسان۔ المُرَبَّب جس پر انعام کیا گیا ہو۔

۴۔ رَبَّ ۔ رَبًّا بالمکان: کسی جگہ پر اقامت کرنا، اقامت پذیر ہونا۔ اَرَبَّ بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا، کسی جگہ ہمیشہ رہنا۔ کہا جاتا ہے: اَرَبَّتِ السحابةُ: بادل مسلسل برسا۔ المَرَبّ: رہنے کی جگہ۔ آپ کہتے ہیں: هذا مَرَبُّ القوم. یہ قوم کے رہنے کی جگہ ہے۔

۵۔ رَبَّ ۔ رَبًّا الشیءَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تَرَبَّبَ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا، مجتمع ہونا۔ الرَبَب: بہت پانی۔ الرَبَّة: بڑا گھر۔ الرِبَّة جمع اَرِبَّة و رِبَاب بڑا گروہ۔ المَرَبّ: لوگوں کو اکٹھا کرنے والا، اجتماع کی جگہ۔ آپ کہتے ہیں: هذا مَرَبُّ القوم: یہ لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے۔ ـ و المِرْبَاب: بہت سبزہ والی زمین، بہت پودوں والی زمین۔ الرُبَّی: مضبوط گرہ۔ الرِبَاب جماعتیں جن سے ہر ایک جماعت دس کی تعداد رکھتی ہو۔ الرُبَّاب: جماعت۔ الرُبَّان و الرِبَّان جماعت۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَ الشیءَ بِرُبَّانِهِ: اس نے تمام چیز لے لی۔

۶۔ رَبَّ ۔ رَبًّا الدهنَ: تیل کو عمدہ اور خوشبودار بنانا۔ رَبًّا و رُبًّا الزِقَّ: مشک پر کھجور کا شیرہ ملنا تاکہ اس کی بو بھی بہتر ہو جائے اور گھی وغیرہ رکھا رکھا خراب نہ ہو۔ رَبَّبَ الدهنَ: تیل کو خوشبودار اور عمدہ بنانا۔ اُرْتُبَّ العنبُ: انگور کا پانی پکا کر شیرہ بنایا جانا۔ الرُبّ جمع رِبَاب و رُبُوب (ط): پھلوں کے رس کو پکا کر گاڑھا کیا ہوا شیرہ۔ الرِبَّة جمع اَرِبَّة و رِبَاب (ن) ایک قسم کا درخت۔ المُرَبَّب مربہ۔ المُرَبَّبَات شیرہ میں تیار کی ہوئی چیزیں۔

۷۔ اَرَبَّ منه کے قریب ہونا۔ الرِبَاب دوست اصحاب۔

۸۔ رُبَّ و رُبَّةَ و رُبَّما و رُبَّتَما حرف جر۔ سیاق کلام کے موافق اکثر اور کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے۔ نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور زائد کے حکم میں ہوتا ہے لہذا اس کا تعلق کسی سے نہ ہوگا۔ جیسے: رُبَّ جهلٍ رَفَع جہل لفظاً مجرور اور محلاً مرفوع ہے کیونکہ وہ مبتدا ہے۔ اسی سے ضرب المثل ہے: رُبَّ اخٍ لك لم تَلِدْهُ اُمُّك بہت سے بھائی ایسے ہیں جو ماں جائے نہیں ہوتے (سچے دوست کے لئے کہا جاتا ہے جو بعض اوقات حقیقی بھائی سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے)۔ جب

اس پر ما کافہ داخل ہو اس کا دخول فعل اور معرفہ پر جائز
ہوتا ہے۔ جیسے رُبَّما الخليلُ مُقبِلٌ و رُبَّما اقبل
الخليلُ اور کبھی اس کا عمل اس صورت میں بھی رہتا
ہے۔ جیسے رُبَّمــا ضَــربةٍ بِسَــيف صــقيلٍ۔
الرُّبّ میٹھا پانی الرَّباب واحد رَبابَة سفید
بادل (مو): آلہ طرب الرُّبَّى حاجت، ضرورت۔
الرُّبّان کہا جاتا ہے افعل ذلك برُبّانه یہ کرو
اس کے نیا پن اور جدت کے ساتھ۔
۹ الرَّبُوب جنگلی گائیوں کا گلہ۔

ربّ: رَبًّا و رِبابةً ہ: کا آقا ہونا، مالک ہونا، کا
قابض ہونا، کو قابو میں رکھنا، پر تسلط قائم رکھنا، پر قابو
رکھنا، اقتدار رکھنا، زیر حکم رکھنا۔ رَبًّا و رَبَّبَ ہ:
(بچہ) کی تربیت کرنا، پالنا رَبَّبَ ہ: ہ کو دیوی
دیوتا بنانا، کو پوجنا، معبود ٹھہرانا، کا پرستار ہونا رَبّ
جمع ارباب آقا، مالک، حاکم اعلی، فرمانروا، خدا
تعالیٰ ۔ (کو) رکھنے والا، (سے) مزین، (سے)
متعلق الرب خدا تعالیٰ رَبّ بحری ملاح،
ماہر جہاز ران رَبُّ العائلة کنبہ کا بانی، گھر کا بڑا۔
اربابُ السُلطان حکام ارباب المال سرمایہ
دار لوگ صعود الرب رفع مسیح ارباب
المعاشات پنشنر لوگ اربابُ السوابق: پہلے
مجرم قرار دیئے گئے لوگ، سزا یافتہ مجرم اربابُ الفنون:
فنکار لوگ رَبَّة جمع رَبّات گھر والی، جورو، بیگم۔
رَبّة المنزل بیگم رَبّةُ البيت: مکان کی مالکن۔
ربّة شعرہ شاعر کی خداداد ذہانت رَبّاتُ الحِجال:
بیگمات رُبّ جمع رِباب و رُبُوب پھلوں کا گاڑھا
رس، چوکر، گودا رُبَّ بہت، کئی رُبَّ رَجُلٍ
کئی آدمی رُبَّ مَرَّةٍ کئی دفعہ رُبَّما کبھی
کبھی، کبھی کبھار، شاید، اتفاقاً، اتفاق سے، ممکن ہے کہ،
کسی طرح، ہوسکتا ہے کہ۔ رَبَّة و رِبَّة: سر
اور چہرے پر اثر کرنے والا ایک جلدی مرض رَباب
و رَبابة تاروں کا ایک پرانا ساز، رباب، ستار۔
رَبِيب جمع اَرِبّاء: سوتیلا بیٹا، سوتیلا باپ، منہ بولا
یا رضاعی باپ، لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹا، رضاعی
بیٹا، نیم وفاقی، حلیف، اتحادی رَبِيبَة جمع
رَبائِب: منہ بولی بیٹی، رضاعی یا لے پالک بیٹی، سوتیلی
بیٹی، منہ بولی ماں، رضاعی ماں، مددگار (عورت) رُبُوبِيَة:
خدائی، الوہیت، دیوتائی، ربوبیت، احدیت رُبّان
جمع رُبّانِية و رَبابِنَة: بحری جہاز کا کپتان، جہاز کا
ناخدا رُبّان ثانی کمانڈر رُبّانيّ: خدائی،
ایزدی، ربانی، خداداد، آسمانی، اللہ تعالیٰ سے متعلق۔

الربّانِيّات: متبرک چیزیں الصلاة الرّبّانية:
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے اپنے
متبعین کو سکھائی تھی جو اے ہمارے باپ سے شروع
ہوتی ہے مُرَبَّة یا مُرَبًّى: مربہ، جام، شکر میں پکایا
ہوا پھل رابّ: سوتیلا باپ رابّة: سوتیلی ماں۔

ربا: ا رَبَأَ - رَبْأً: چڑھنا، بلند ہونا — علی جبلٍ:
پہاڑ سے جھانکنا — الشیء: کو اونچا کرنا —
القومَ و للقوم: قوم کا نگہبان و دیدبان ہونا —
فی الامر کسی معاملہ پر غور کرنا، سوچنا رابَأَ
مُرابَأةً ہ: کی نگرانی کرنا، سے پر حذر و خوف رہنا،
بچنا اِرْتَبأَ المَرْبَأةَ: دیدبانی کی جگہ پر چڑھنا —
علی الجبل: پہاڑ پر سے جھانکنا — بهم: کا
دیدبان ہونا۔ کہا جاتا ہے اِرْتَبأ الشمسَ متى تغرب
دیکھتے رہو کہ آفتاب کب غروب ہوتا ہے المَرْبِیءُ و
الرَّبِيئة جمع رَبايا: فوج کا دیدبان سکاوٹ۔
کہا جاتا ہے بثّوا رَبایاهُمْ انہوں نے اپنے
دیدبان پھیلا دیئے المَرْبَأ و المَرْبأ و المَرْبأة و
المُرْتَبأ دیکھ بھال کرنے کی جگہ، پہرے کا مینار،
مچان المِرْباء: سیڑھی۔
۲ رَبَأَ - رَبْأً المالَ: مال کی حفاظت کرنا، اصلاح کرنا۔
کہا جاتا ہے اِرْبَأ به اس کی حفاظت کرو لمنی
اَرْبَأ بك عن ذلك: میں تمہارے لئے اس کو پسند نہیں
کرتا ما رَبَأْتُ رَبْأَہ: میں نے اس کو نہ جانا اور نہ
اس کی پروا کی۔
۳ رَبَأَ - رَبْأً المالَ: مال لے جانا رَبَّأ تَرْبِئَةً ہ:
کو لے جانا۔
رَبَأَ - رَبْأً ب: کی بہت عزت کرنا، توقیر کرنا، کا احترام
کرنا رَبَأ به عن: کسی کو کسی چیز یا کچھ کرنے سے
بالاتر سمجھنا، کے متعلق اس قدر اونچی رائے رکھنا کہ اس
پر کچھ کرنے کا شبہ کیا جائے یا توقع کی جائے کہ وہ ایسا
کرے گا رَبَأ بنفسه عن: اپنے آپ کو کسی چیز
سے بالاتر سمجھنا، سے بہتر خیال کرنا، سے الگ تھلگ
رہنا رَبِيئَة جمع رَبايا: پہرے دار، سنتری، محافظ۔

ربت: ا رَبَتَ - رَبْتًا الصبيَّ: بچہ کی پرورش کرنا،
بچہ کو پالنا رَبَّتَ تَرْبِيتًا الصبيَّ: بچہ کی پرورش
کرنا، بچہ کو پالنا، بچہ کو تھپکنا تاکہ سو جائے۔
۲ رَبَتَ - رَبْتًا الشیءُ: بند ہونا۔
رَبَتَ - رَبْتًا ہ: کو تھپکنا، تھپکی دینا، پر پیار سے ہاتھ
پھیرنا، چومنا، کو سہلانا رَبَّتَ ہ: بمعنی رَبَتَ ہ۔
رَبَّتَ علی خدہ: کے رخسار کو تھپکنا۔ رَبَّتَ علی
کتفه کا کندھا تھپکنا رَبَّتَ نفسه: خود ہی مطمئن
ہونا، خود ہی خوش ہونا، آدم بیزار ہونا۔

ربث: ا رَبَثَ - رَبْثًا و رَبَّثَہ عن كذا: کو سے منع
کرنا، روکنا تَرَبَّثَ: دیر لگانا، پیچھے رہنا الرَّبِيث:
روکا ہوا الرَّبِّيثَى: مانع، روک الرَّبِيثَة جمع
رَبائِث: مانع، دھوکا۔
۲ اِرْتَبَثَ و اَرْبَثَ القومُ: متفرق ہونا، منتشر ہونا، تتر
بتر ہونا۔ امرُهم: کا معاملہ کمزور ہونا، بکھر جانا۔

ربج: رَبُجَ - و رَبِجَ - رَباجَةً کودن ہونا، بیوقوف
ہونا، کند ذہن ہونا تَرَبَّجَ کند ذہن ہونا، متحیر ہونا۔
الاَرْبَجان (ن): ایک قسم کی نبات، پودا۔

ربح: ا رَبِحَ - رِبْحًا و رَبَحًا و رَباحًا فی تجارته
تجارت میں نفع حاصل کرنا رَبَّحَ ہ: کو فائدہ مند
کرنا رابَحَ مُرابَحَةً ہ علی سلعته: کو اس
کے سامان تجارت پر نفع دینا اَرْبَحَ الناقةَ: اونٹنی کو
صبح اور دوپہر کو دوہنا — ہ علی سلعته: کو اس
کے سامان تجارت پر نفع دینا تَرَبَّحَ: نفع طلب کرنا۔
اِسْتَرْبَحَ: نفع طلب کرنا۔ الشیءَ: کا نفع طلب
کرنا الرِّبح جمع اَرْباح و الرَّباح: نفع، فائدہ۔
الرَّبَح: نفع، فائدہ، فروخت کے لئے لائے جانے
والے اونٹ مالٌ رابِح: نفع دینے والا مال مَتْجَرٌ
رَبِيحٌ: نفع بخش تجارت۔
۲ الرُّبَح (ح): اونٹ کے چھوٹے بچے الرَّباح:
شراب، وہ شہر جس سے کافور لایا جاتا ہے اور الرباحی
کہلاتا ہے الرُّبَاح و الرُّبّاح جمع رَبابِيح
(ح): اونٹ کا بچہ، بکری کا بچہ۔ (ح): بندر۔

رَبِحَ - رِبْحًا و رَبَحًا من ہ: کسی چیز سے کوئی چیز
پانا، حاصل کرنا۔ من: سے نفع کمانا، (کھیل وغیرہ
میں) جیتنا ما رَبِحَتْ تجارتُهم: ان کی تجارت
غیر منفعت بخش تھی رَبَّحَ و اَرْبَحَ ہ: کو حاصل
کرانا، کو نفع دینا رِبْح جمع اَرْباح: نفع، فائدہ،
سود اَرْباح: پیداوار، منافع، محاصل، بکری، آمدنی،
کمپنی کا وقتاً فوقتاً ادا ہونے والے منافع رِبْح
بسيط: سادہ سود رِبح مُرَكَّبٌ: سود مرکب، سود
در سود رَبّاح جمع رَبابِيح: بندر اَرْبَح:
زیادہ منافع بخش، زیادہ نفع بخش، زیادہ منفعت بخش۔
مُرابَحة: دوسرے شخص کو کسی چیز کی فروخت نفع کی
تفصیل کے ساتھ یا پیشگی ادائی کے ساتھ رابِح:
نفع اندوز، فائدہ اٹھانے والا، جیتنے والا، نفع پانے والا،
منفعت بخش، سود مند، نفع بخش (تجارت، کاروبار)۔
مُرْبِح: نفع بخش، منفعت بخش، نفع کا، سود مند۔

ربخ: رَبَخَ - رَبْخًا البعيرُ: اونٹ کا ریت میں چلنا،

دشوار ہونا۔ اِرْبَخَ الرملُ: ریت کا تہ بند ہونا۔ ــ الرجلُ: مصیبت میں پڑنا۔ تَـرَبَّـخَ الـرجـلُ: سست وڈھیلا ہونا۔ الرَّبِیخ: بڑا پالان۔

ربد: ۱۔ رَبَدَ ـ رُبُوْدًا بـالـمـكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ــ هٗ: کو منع کرنا، روکنا۔ ــ الابلَ: اونٹوں کو باڑہ میں باندھنا۔ الـمِـرْبَدُ: اونٹوں وغیرہ کا باڑہ، گھروں کے پیچھے کا میدان یا گھیر۔ ــ للتمر: کھجوروں کے خشک کرنے کی جگہ۔

۲۔ رَبِدَتِ الشاةُ: بکری کے تھن میں سفید وسیاہ داغوں کا ہونا۔ تَـرَبَّدَ الضرعُ: تھن میں سیاہ سفید داغوں کا ہونا۔ ــ ت السماءُ: آسمان کا ابر آلود ہونا۔ ــ الرجلُ: ترش رو ہونا، تیوری چڑھانا۔ ــ اللونُ: رنگ کا متغیر ہونا۔ اِرْبَدَّ اِرْبِدَادًا و اِرْبَادَّ اربیدادًا: خاکستری رنگ والا ہونا۔ الـرُّبْـدُ (ن) ایک قسم کا پودا۔ الـرُّبْدُ: خاکستری رنگ۔ الأَرْبَدُ مؤنث رَبْداءُ: خاکستری رنگ والا۔ عـامٌ اَرْبَدُ: قحط کا سال۔ الـرَّبْدَاءُ: سخت وسنگین۔ کہا جاتا ہے: داهيةٌ رَبْداءُ: سخت یا سنگین مصیبت۔ الـمُتَرَبِّدُ: شیر۔

○ تَرَبَّدَ: آسمان کا ابر آلود ہونا، بادلوں سے بھر جانا، آسمان پر بادل چھا جانا؛ خاکستری رنگ کا ہونا، قہر آلود ہونا، (چہرے کا غصہ سے)۔ اِسْـتَـرْبَدَ: خاکستری رنگ کا ہونا، راکھ جیسا ہونا، قہر آلودہ ہونا (چہرے کا)، ترش رو ہونا۔ مُـرْبَدّ: تاریک اداس، ملول افسردہ۔ (چہرہ) ابر آلود۔

ربذ: ۱۔ رَبِذَ ـ رَبَذًا: چلنے میں تیز قدم اور کام میں تیز دست ہونا، صفت: رَبِذ۔ الـرَّبِذُ مؤنث رَبِذَة: چلنے میں تیز ٹانگوں والا۔ کہا جاتا ہے: هـو رَبِذُ العنان: وہ تنہا اور شکست خوردہ ہے۔

۲۔ اَرْبَذَ الثوبَ او الحبلَ: کپڑا یا رسی کاتنا۔ الرِّبْذَةُ و الرَّبَذَةُ جمع رِبَذ و رِبَاذ و رَبَذ: کوڑے کا پھندنا۔

۳۔ الرِّبْذَةُ: گندگی، بے خیر آدمی۔ ــ و الرَّبَذَةُ جمع رِبَذ و رِبَاذ و رَبَذ: چیتھڑا جس سے سنار زیورات صاف کرتا ہے، روئی کا گالا جو اونٹ کے کان یا گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ وہ اون جس سے اونٹ کی مالش کی جاتی ہے، بوتل کا ڈھکن۔ لِثَةٌ رَبِذَةٌ: تھوڑے گوشت والے مسوڑھے۔

ربز: رَبُزَ ـ رَبَازَةً: چالاک و دانا ہونا۔ رَبَزَ القِربةَ: مشک بھرنا۔ اِرْتَبَزَ الشيءُ: چیز کا تمام وکامل ہونا۔

ربس: ۱۔ رَبَسَ ـ رَبْسًا هٗ بِيَدَيْهِ: کو دو ہتڑ مارنا۔ الرَّبِيس: دو ہتڑ سے مارا ہوا۔

۲۔ رَبَسَ ـ رَبْسًا و رَبَّسَ القِربةَ: مشک کو بھرنا۔ اِرْتَبَسَ العنقودُ: گچھے کا ایک دوسرے میں گھس جانا، ٹھوس ہونا، پیوستہ ہونا۔ الرِّبْس (مص): بہت، کثیر۔ کہا جاتا ہے: جاء بمالٍ رِبْسٍ: وہ بہت مال لایا۔ الرَّبِيس: ٹھوس۔

۳۔ اَرْبَسَ اِرْبَاسًا: کو غضبناک کرنا۔ اِرْبَسَّ اِرْبِسَاسًا امرُهُم: کے معاملہ کا کمزور ہونے کے باعث سب کا متفرق ہونا۔ الرجلُ: ملک میں جانا۔ ــ في امرهِ: اپنے کام میں تصرف کرنا۔

۴۔ الـرَّبْـس: ناپسندیدہ اور بری بات۔ الـرَّبِيـس: مصیبت، مصیبت زدہ، بہادر۔ ام الربيس: سانپ، مصیبت سے کنایہ۔ الرَّبْساء جمع رُبْس: سخت مصیبت۔ کہا جاتا ہے: جـاء بـامور رُبْسٍ: وہ مصائب لے کر آیا۔ الـرِّيبَـاس (ن): چقندر کے مشابہ ایک سبزی جس کا مزہ ترشی مائل میٹھا ہوتا ہے۔

ربش: اَرْبَشَ الشجرُ: درخت کا پتے لانا، پھوٹنا، بعض کے نزدیک درخت کا پھل لانا۔ الـرُّبْشَةُ: رنگ کا اختلاف۔ الأَرْبَش مؤنث رَبْشَاء: مختلف رنگوں کا۔ ارضٌ رَبْشَاءُ: مختلف رنگوں کی گھاس والی زمین۔

ربص: رَبَصَ ـ رَبْصًا بـه: کے لئے بھلائی یا برائی کا انتظار کرنا یا کسی کو برائی پہنچانے کے لئے موقع کی تاک میں رہنا۔ تَـرَبَّصَ: انتظار کرنا۔ ــ عن الامر: کسی امر سے رک جانا۔ ــ في المكان: کسی جگہ رہنا۔ ــ بفلان: کسی کے لئے برائی یا بھلائی کا انتظار کرنا، کو نقصان پہنچانے کے لئے موقع کی تاک میں رہنا۔ ــ بسلعته الغلاءَ: مال کی گرانی تک اُسے روک رکھنا۔ الـرُّبْصَـةُ: انتظار، موقع کی تاک میں رہنا، رنگ کا اختلاف۔

○ رَبَصَ ـ رَبْصًا ب: کا انتظار کرنا، کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کا منتظر ہونا۔ تَـرَبَّصَ ل: کی گھات میں ہونا یا بیٹھنا، کو راستے میں روکنا، کی راہزنی کرنا، کی گھات لگانا۔ ــ گھات لگانا، پوزیشن لے لینا (فوج کا)۔ ــ ب/ هـ: کی توقع کرنا، کا انتظار کرنا۔ تَـرَبَّصَ الـفـرصةَ: موقع کا انتظار کرنا، موقع کی تاک میں رہنا۔ تَرَبَّصَ بِهِ الامرَ: کسی پر کوئی بپتا پڑنے یا حادثہ وغیرہ پیش آنے کا انتظار کرنا۔ تَـرَبَّـصَ بـه الـدوائرَ: کسی کے مصیبت میں پھنسنے کا انتظار کرنا۔ تَـرَبُّص: آزمائشی مدت۔ مُتَـرَبِّص: امیدوار، (عروج و ترقی کا) آرزو مند یا متمنی۔

ربض: رَبَضَ ـ رَبْضًا و رُبُوضًا و رِبْضَةً ت الدابةُ: اونٹوں کا گھٹنوں پر بیٹھنا۔ ــ الاسدُ علی فريسته و القِرْنُ علی قِرْنِهِ: شیر کا اپنے شکار کو اور ساتھی کا اپنے ساتھی کو دبوچ کر بیٹھنا۔ ــ ـ رَبْضًا و رُبُوضًا فلانًا او المكانَ: کسی کے پاس یا کسی جگہ پناہ لینا۔ رَبَّضَ هُ بالمكان: کو کسی جگہ روکے رکھنا۔ ــ الدوابَّ: جانوروں کو ان کے بیٹھنے کی جگہ روکے رکھنا۔ کہا جاتا ہے: رَبَّضَ السقاءُ: مشک میں سوراخ ڈھکنے والی کوئی چیز رکھنا۔ اَرْبَضَ الدوابَّ: اونٹوں کو احاطہ میں لانا۔ ــ الرجلَ: طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا جس سے وہ بیٹھ جائے۔ ــ ت الشمسُ: سورج کا سخت گرم ہونا۔ تَرَبَّضَ: ضعف کی وجہ سے کسی جگہ ٹھہرے رہنا۔ الـرُّبْض: عمارت کی بنیاد، چیز کا زمین سے چھونے والا حصہ، چیز کا درمیان۔ ــ والـرَّبَض و الرُّبُض: بیوی، ماں، بہن۔ کہا جاتا ہے: رجـلٌ رُبُضٌ عن الاسفار او عن الحاجات: وہ آدمی جو نہ تو سفر کے لئے اور نہ ہی حاجت روائی کے لئے باہر نکلے۔ الـرِّبْض من البقر: بیٹھی ہوئی گایوں کا گلہ۔ الـرَّبَض: بیوی، ماں، بہن۔ ــ جمع اَرْبَاض: بکریوں کا باڑہ، کجاوہ کی رسی، قوم کے رہنے کی جگہ، شہر کے گرد کی بستی، شہر پناہ، آنتیں، ہر ایسی چیز جس کے پاس آرام لیا جائے یا پناہ لی جائے جیسے اہل خانہ، رشتے دار، مال، گھر وغیرہ۔ الـرَّابِض (فا) و الرِّبَّاض: شیر۔ الرَّابِضَة: رابض کا مؤنث، بلند امور سر انجام دینے سے عاجز وقاصر، چپٹی ناک والے کو کہا جاتا ہے: ارنبته رابضة علی وجهه: اس کی ناک اس کے چہرہ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ الـرُّبْضَـةُ و الرُّبَضَة: بیٹھ رہنے والا آدمی۔ الرُّبْضَة: لاشوں کا ڈھیر، لاش، بکریوں کا گلہ، آدمیوں کا گروہ، بیٹھنے کی ہیئت۔ الرُّبُوض جمع رُبُض من القُرى: بہت آبادی والا گاؤں۔ ــ من الشجر: بڑا درخت۔ ــ من الدروع: فراخ زرہ۔ قِرْبَةٌ رَبُوضٌ: بڑی مشک جس کا اٹھانا دشوار ہو۔ الـرَّبِيض: احاطہ میں اکٹھا کیا ہوا بکریوں کا ریوڑ مع چرواہوں کے، پیٹ میں آنتوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ الـمَرْبِض جمع مَرَابِض: جانوروں کے بیٹھنے کا احاطہ۔ ــ و المَرْبَض: پیٹ میں آنتوں کے جمع ہونے کی جگہ۔

○ رَبَضَ ـ رَبْضًا و رُبُوضًا: جانوروں کا زمین پر سینہ کے بل لیٹنا، بیٹھنا، آرام کرنا۔ ــ ل: کسی کی گھات میں ہونا، یا کسی کی گھات میں بیٹھنا۔ رَبَض جمع اَرْبَـاض: شہر کے دور افتادہ علاقے، نواحی بستی، جانوروں کے آرام کرنے کے لئے لیٹنے کی جگہ۔ مَرْبِض جمع مَرَابِض: جانوروں کے بیٹھنے اور آرام کرنے کی جگہ، بھیڑوں کا باڑا۔

ربط: ا۔ رَبَطَ ۔ رَبْطًا ہٗ: کومضبوط باندھنا۔ رَابَطَ رِبَاطًا و مُرَابَطَةً الجيشُ دشمن کی سرحد کے پاس لشکر کا ہمیشہ پڑاؤ رکھنا۔ تَرَابَطَ الماءُ فی المکان: پانی کا کسی جگہ جمع ہوکر ٹھہرنا۔ اِرْتَبَطَ فی الحبل: رسی میں بندھ کر لٹکنا۔ ۔ فرسًا سرحد کی حفاظت کے لئے گھوڑے کو تیار کرنا۔ الرباط جمع رُبُط جس سے کوئی چیز باندھی جائے، باندھنے کی چیز، گھوڑے (کہا جاتا ہے: فلانٌ لهٗ رباط من الخیل فلاں شخص کے پاس گھوڑے ہیں)، قلعہ یا لشکر کا پڑاؤ، دل۔ کہا جاتا ہے: فرس رِباطهٗ وہ مر گیا، یا بیماری سے صحت یاب ہوگیا۔ الرُّبُط واحد ربیط بندھے ہوئے اور چارہ دیئے ہوئے گھوڑے۔ الرَّبیط بندھا ہوا۔ الربیْطة بندھے ہوئے جانور۔ کہا جاتا ہے: دابَّةٌ رَبِیطةٌ: بندھا ہوا جانور (خلاف قیاس) اور دابَّةٌ ربیط۔ المرْبَط و المَرْبِط جمع مرابط جانوروں کو باندھنے کی جگہ۔ المِرْبَط و لمِرْبَطة جمع مرابط جانور وغیرہ باندھنے کی چیز۔ المرتّاط تانت کو باندھنے والا۔ الرابطة رابط کا مؤنث: ملاپ تعلق۔ المُرَابطة جمع مُرابطات ایک جگہ تعینات کیا ہوا فوجی دستہ۔ الربَاطات واحد رِباط (فقراء کے لئے وقف کئے ہوئے محتاج خانے۔

۲۔ ربَطَ ۔ رَبْطًا ہُ اللّٰهُ علی قلبه اللہ تعالیٰ کا کسی کے دل کو قوت بخشنا اور صبر عطا کرنا۔ ۔ جاشُهٗ دل کا مضبوط ہونا۔ رابط رباطًا مُرابَطَةً الامرَ کسی کام وغیرہ کو کرتے رہنا، پرڈٹا رہنا، جمار ہنا، قائم رہنا۔ الرَابط (فا) راہب یا زاہد، عابد، حکیم یا دانا جس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرلی ہو۔ رَابِطُ لجاش بہادر، نڈر۔ الربِیط راہب یا زاہد، دانا۔ رَبِیطُ الجاش بہادر۔

۳ رَبَطَ ۔ رَبْطًا ہ کو باندھنا، لنگر انداز کرنا۔ ۔ ہ الی کو سے باندھنا، جوڑنا، لگانا، لٹکانا، نتھی کرنا، منسلک کرنا، کو کے ساتھ لگانا، کو سے ملانا۔ ۔ ہ کو مقرر کرنا، معین کرنا، متعین کرنا، کی قیمت لگانا، آنکنا، کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا، کو تشخیص کرنا، لگانا یا مقرر کرنا۔ ۔ ہ الی کو سے جوڑنا، کو میں جمع کرنا، شامل کرنا، کا میں اضافہ کرنا، کو کے ساتھ نتھی کرنا، ٹانکنا، ملحق کرنا، کو سے چپکانا، چپکانا، لگانا، کو میں ڈالنا، داخل کرنا۔ ۔ ہ کو ایک کرنا، متحد کرنا، اکٹھے کرنا۔ ۔ بین و بین کو کے ساتھ متحد کرنا، اکٹھے کرنا۔ ۔ ہ کو باندھنا، پرلہورو ک (پٹی) لگانا، (زخم) کی مرہم پٹی کرنا، زخم کو پٹی سے باندھنا۔ ۔ ہ/علی کو روکنا، تھامنا، لگام دینا۔ ۔ ہ (ٹرین) کو بریک لگانا۔ ۔ ہ (پادری) کو معطل کرنا۔ رَبَطَ لِسانه: کو خاموش کرنا، کا منہ بند کرنا۔ رَبَطَ علی قلبه: اللہ تعالیٰ کا کسی کو جسمانی، اخلاقی یا دماغی حیثیت سے قوی بنانا، صبر عطا کرنا۔ رَبَطَ جاشَهٗ: اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، خاموش رہنا، بے خوف ہونا، ہراساں نہ ہونا۔ رَبَطَ الطریقة: شاہراہ پر ڈاکے ڈالنا۔ رَابَطَ (فوج کا) صف بستہ ہونا، کسی مقام پر تعینات ہونا، پوزیشن لینا، (جہاز کا) لنگر انداز ہونا۔ رابط فی قضیَّتِه کے نصب العین کا دفاع کرنا، کے لئے لڑنا۔ اِرْتَبَطَ پابند ہونا، مشغول ہونا۔ ۔ ب سے پابند، مربوط، منسلک یا متعلق ہونا، پر انحصار کرنا۔ ۔ متحد ہونا، مشترکہ مقصد کے حصول کے لئے باہم مل کر کام کرنا۔ رَبط باندھنا، جوڑنا، ملانا، نتھی کرنا، مربوط کرنا (کسی رقم، تعداد) کا تعین، تقرر، تشخیص، قیمت کا اندازہ (کرنا)۔ ربط مالی مالی تعین، اختصاص۔ اهل الحل و الربط: صاحب رسوخ یا اختیار لوگ، برسر اقتدار لوگ۔ مکانُ الربط لوہے کا جوڑ، لوہا گرم کر کے لگایا ہوا ٹانکا یا جوڑ۔ رُبَط مضافات، نواحی علاقہ، سواد شہر، نواح شہر۔ رُبْطَة جمع ربطات و رِباط: ربن، بینڈ، زخم پر باندھنے کی پٹی، بنڈل، پارسل، پیکیج۔ ربطة الرقبة: نیک ٹائی۔ ربطة الساق: گیٹس، موزہ کا بندیا فیتہ، لچکدار پٹی۔ رَبْطَةُ النقود: بٹوہ۔ رِباط جمع رباطات و رُبُط و اَربِطَة: ربن، بینڈ، پٹی، بند، بندھن، رشتہ، ریشے اور عضلات جو ہڈیوں کو ملاتے ہیں، ہڈیوں کو جوڑنے والی رگیں، زخم پر باندھنے کی پٹی، زنجیر، بیڑی، بندش، بند، بندھن، سرائے کارواں سرائے، محتاج خانہ (صوفیوں اور فقیروں کے لئے)۔ رِباطُ الأجرِبَة: گیٹس۔ رباط الجَزْمَة: بوٹ کا تسمہ۔ رباط الرَقَبَة: نیک ٹائی۔ رباط و رباط الفتح رباط (مراکش کا دارالحکومت)۔ رِبَاطَةُ الجاش دلجمعی، اطمینان، سکون، ضبط نفس، قرار، خاموشی، جواں مردی، بے باکی، شجاعت۔ مَرْبِط و مَرْبَط جمع مَرَابِط: وہ جگہ جہاں جانوروں کو باندھا جاتا ہے۔ مِرْبَط جمع مَرَابِط رسی، لنگر اندازی کی تار، جہاز کا تار، جہاز کا موٹا رسہ، سرا (برقی)۔ اِرْتِبَاط: تعلق، رابطہ، پیوند، رشتہ، رابطہ، واسطہ، ربط، اتصال، ربط۔ (۔ ب سے بندھن) فرض، مصروفیت، پابندی، ذمہ داری، قید۔ ۔ ب سے تعلق یا علاقہ، کے ساتھ رشتہ۔ ۔ اتحاد، متحدہ جماعت، ممالک منسلکہ۔ بدون ارتباط کسی ذمہ داری کے بغیر۔ ضابطُ اِرتباط: افسر رابطہ۔ رَابطُ الجاش: خاموش، مطمئن جذبات پر قابو پائے ہوئے پرسکون، نڈر، بے خوف۔ رَابِطَة جمع رَوَابِط: بینڈ، اتحاد، بندھن رشتہ، تعلق، رابطہ، پیوند، واسطہ، ممالک منسلکہ، نیم وفاق، اتحاد، متحدہ جماعت۔ رَوَابطُ الصداقة: دوستی کے رشتے۔ الرابطة الاسلامية مسلم لیگ۔ مَرْبُوط بندھا ہوا، جڑا ہوا۔ ۔ الی سے بندھا ہوا، جکڑا ہوا، رسیوں سے (زمین) کے ساتھ، محفوظ کی ہوئی (کشتی وغیرہ)۔ ۔ مقرر کیا ہوا، مقررہ تنخواہ (بجٹ کا) تخمینہ۔ مُرَابِط (کسی جگہ) لگایا ہوا، تعینات کیا ہوا، حفاظت پر مامور فوج۔ الجیش المُرابِط: علاقائی فوج۔ مرتبط ب سے مربوط، جڑا ہوا، ملایا ہوا، منسلک کیا ہوا۔ ۔ ب کا پابند کیا ہوا، کا وعدہ کئے ہوئے، سے مشروط، پر منحصر۔

ربع ا۔ رَبَعَ ۔ رَبْعًا: توقف کرنا، انتظار کرنا۔ کہا جاتا ہے: اِرْبَعْ علیك او علی نفسك او علی ظلعك: ٹھہرو، توقف کرو۔ ۔ عنهٗ: سے رکنا۔ ۔ بعیشه: زندگی سے مطمئن ہونا۔ ۔ علیه: پر شفقت و مہربانی کرنا۔

۲۔ رَبَعَ ۔ رَبْعًا القوم: کا چالیسواں یا چوتھا ہونا، کے مال کا چوتھا حصہ لینا۔ ۔ الحبلَ: چار لڑیوں کی رسی بٹنا۔ ۔ رَبْعًا ت علیه الحُمّٰی: کو ہر چوتھے دن بخار چڑھنا۔ رُبِعَ الرَّجُلُ: کو ہر چوتھے دن بخار چڑھنا۔ رَبَّعَ البیتَ او الحوضَ: گھر یا حوض کو چوکور کرنا۔ اَرْبَعَ: چوتھے سال میں داخل ہونا۔ اَرْبَعَ القومُ: چار ہونا۔ ۔ الرجلُ: کو چوتھا بخار آنا۔ تَرَبَّعَ فی جلوسه: چار زانو ہوکر بیٹھنا۔ الرُّبُع و الرُّبْع جمع اَرباع و رُبُوع: چوتھائی 1/4، الرَبْع و الرَبَع: درمیانے قد کا آدمی۔ کہا جاتا ہے: رجل رَبْع و رَبَع: درمیانے قد کا آدمی۔ الرِبْع: اونٹوں کو چوتھے دن پانی پلانا۔ حُمّیَّ الرِبع: چوتھیا بخار۔ الرَبْعَة جمع رَبْعات و رَبَعات (مذکر و مونث کے لئے): میانہ قد کا، عطر فروش کا ڈبہ۔ کہا جاتا ہے: فتح العطّارُ رَبْعَتَهٗ: عطر فروش نے اپنا ڈبہ کھولا۔ الرَابِع (فا): چوتھا۔ اِبلٌ رَوَابِع: چوتھے دن پانی پینے والے اونٹ۔ رُبَاعَ: چار چار۔ کہا جاتا ہے: اتوا رُباعَ: وہ چار چار آئے۔ الرَبَاعِی جمع رُبُع و رُبُع و رِبْعَان و رِبَاع و رُبَع و اَرْبَاع مؤنث رَبَاعِیَة

جمع رَبَاعِيَات: رباعی دانت گرا ہوا۔ آپ کہتے ہیں: رَكِبْتُ بِرْذَوْنًا رَبَاعِيًا میں ایک ٹٹو پر سوار ہوا جس کے رباعی دانت گرے ہوئے تھے۔ عندی برذون رباع میرے پاس رباعی دانت گرا ہوا ٹٹو ہے۔ الرَّبَاعِيَة جمع رباعِيَات سامنے کے چار دانتوں اور کچلیوں کے درمیان والا دانت۔ الرُّبَاعِي چار سے مرکب۔ ـ او الشکل الرُّبَاعِيّ (ھ) چار ضلعی یا چار زاویہ شکل۔ الـرُّوبَعَة چارزانو بیٹھنے والے کی بیٹھک، کوتاہ قدکا، پستہ قدکا۔ اَرْبَعَة مونث اَرْبَع (ع ح): چار۔ الـرِيَـاحُ الأَرْبَع چارسمت چلنے والی ہوائیں۔ الصبا (پوروی ہوا)۔ الدَّبُور (پچھمی ہوا) الجنوب (جنوبی ہوا) الشمال (شمالی ہوا)۔ ذوات الاَرْبَع چار ٹانگوں پر چلنے والے جانور چوپائے۔ ام اَرْبَع و اربعین (ح) ایک قسم کا کیڑا (کن سلائی)۔ اَرْبَعُون چالیس۔ الاَرْبِعاء (باکی تثلیث کے ساتھ۔ تثنیہ اَرْبِعَاوان جمع اَرْبِعَاءات و اَرْبِعَاوات بدھ کا دن۔ الاَرْبُعَاء (ب) گھر کا ستون۔ قَعَدَ الأَرْبُعَاءَ و الأَرْبُعَاوَى وہ چارزانو ہو کر بیٹھا۔ المُرْبَع چوتھیا بخار والا۔ المُرَبَّع (ھ) مربع: وہ شکل جس کے چار رکن یا ضلعے ہوں۔ (ع ح) کسی ہندسے کو اسی سے ضرب دینے کا حاصل چنانچہ 9 تین کا مربع ہے۔ التَّرْبِيع جمع رُبُع: چوتھائی۔ التَّرْبِيع (ع ح): عدد کا مربع۔ المِرْبَاع: غنیمت کا چوتھا حصہ جو زمانہ جاہلیت میں سردار لیا کرتا تھا۔ ــــ والمُرْتَبِع و المَرْبُوع: درمیانے قدکا۔

۳۔ رَبَعَ ـ رَبْعًا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا، مطمئن ہونا۔ الـرَّبْع جمع رِبَاع و رُبُوع و اَرْبُع و اَرْبَاع: گھر، گھر کا اردگرد، محلہ، اترنے کی جگہ، لوگوں کا گروہ۔ الرُّبُوع: محلے۔ الرَّبَاع خوش حالی۔ کہا جاتا ہے: هم على رَبَاعَتِهِم وہ اپنی گذشتہ خوشحالی میں ہیں۔ الرَّبَاعَة و الرِّبَاعَة اچھی حالت (کہا جاتا ہے: ليس فيهم من يضبط رَبَاعَتَهُ الافلان: فلاں شخص کے سوا ان میں کوئی بھی اپنی اچھی حالت میں نہیں) سرداری، (کہا جاتا ہے: لا يقيم رباعة القوم الافلان: فلاں شخص کے سوا کوئی بھی قوم کی سرداری قائم رکھنے والا نہیں۔ هو رباعة قومه وہ اپنی قوم کا سردار ہے) مملوک چیز جس سے انسان کی حالت اچھی ہو۔

۴۔ رَبَعَ ـ رَبْعًا الرجلُ: خوش حالی کا سال پانا۔ ــــ الابل: اونٹوں کا چوتھے دن پانی پینا۔ ــــ رُبُوعًا

الـرَّبِيع موسم بہار کا آنا۔ رُبِعَ القومُ: موسم بہار کی بارش پانا۔ اسی طرح زمین کا موسم بہار کی بارش پانا ایسی زمین مَرْبُوعَة کہلاتی ہے۔ اَرْبَعَ القومُ فصل ربیع میں داخل ہونا، چراگاہ یا پانی والی سرسبز جگہ پر پہنچنا۔ ـ الابلَ: اونٹوں کو پانی پر جانے کے لئے آزاد چھوڑ دینا۔ ـ الرجلُ: کے ہاں بڑھاپے میں بچہ پیدا ہونا۔ تَرَبَّعَ و ارْتَبَعَ الجملُ موسم بہار کے سبزہ کو چرکر اونٹ کا فربہ ہونا۔ ـ بالمكان: کسی جگہ موسم بہار گزارنا۔ المَرْبَع جمع رِبَاع و رُبُوع و اَرْبُع و اَرْبَاع: موسم بہار گزارنے کی جگہ۔ الـرُّبَع جمع رِبَاع و اَرْبَاع مونث رُبَعَة جمع رُبَعَات و رِبَاع: موسم بہار میں پیدا ہونے والا اونٹنی کا پہلا بچہ اگر موسم بہار کے آخر میں پیدا ہو تو اسے هُبَع کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: مالهم رُبَعٌ ولا هُبَعٌ: ان کے پاس نہ تو موسم بہار میں پیدا ہونے والا اونٹنی کا بچہ ہے اور نہ اس موسم کے آخر میں پیدا ہونے والا اونٹنی کا بچہ۔ الـرَّبِيع جمع اَرْبِعَة و رِبَاع و اَرْبِعاء: موسم بہار (۲۱ مارچ سے ۲۱ جون تک)۔ ربيع الاول و الآخر: قمری سال کا تیسرا اور چوتھا مہینہ۔ ربیع الاول صفر اور ربیع الآخر کے درمیان کا مہینہ ہے اس کے تیس دن ہوتے ہیں۔ ربیع الآخر ربیع الاول اور جمادی الاولی کے درمیان کا مہینہ ہے یہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ربيع رابع: سرسبز موسم بہار۔ ــــ جمع اَرْبِعاء و رُبْعَان: زمین کے لئے پانی کا حصہ۔ مطر الـربيع: موسم بہار کی بارش جس میں سبزہ اور گھاس اگتا ہے۔ سبز چارہ۔ المَـرْبَع موسم بہار میں ہونے والی بارش۔ ــــ والمُرْتَبَع موسم بہار کی قیام گاہ۔ المِرْبَاع: وہ جگہ جس کی سبزی موسم بہار کے شروع میں اُگے۔ (ح) موسم بہار میں بچہ دینے والی اونٹنی۔ الرُّوبَعَة (طب): اونٹ کے بچوں کی ایک بیماری۔ الـرَّبِيعَة: باغ، توشہ دان۔ الـرَّبِيـعـي مـن المـسـاكـن: موسم بہار گزارنے کی اقامت گاہ۔ الرَّبِيعِيَّات (ن): ایک پودا۔ المَرَابِيع موسم بہار کے شروع میں ہونے والی بارشیں۔

۵۔ رَبَعَ ـ رَبْعًا الرجلُ: اپنی قوت کا اندازہ کرنے کے لئے پتھر اٹھانا۔ رَابَعُوا الحِمْلَ: بوجھ اٹھانے کی لکڑی کو بوجھ کے نیچے لگانا۔ کہا جاتا ہے: رابعته: میں نے اس کے ساتھ مل کر بوجھ اٹھانے والی لکڑی کے ذریعے بورا اونٹ کی پیٹھ پر رکھا۔ ارْتَبَعَ الحجرَ: پتھر اٹھانا۔ اِسْتَرْبَعَ البعيرُ للسير: اونٹ کا چلنے کی طاقت پانا۔ ـ الشیء: کی طاقت رکھنا۔ ـ الغبارُ:

غبار اٹھنا۔ ــــ الرملُ: ریت کا تہ بتہ ہونا، تو دہ لگنا۔ المِرْبَع و المِرْبَعَة: جانور پر بوجھ اٹھا کر رکھنے کی لکڑی۔ الـرَّبِيـعَة: طاقت آزمانے کے لئے اٹھایا جانے والا پتھر۔

۶۔ الـرَّوْبَع: کمزور کمینہ۔ الـرَّبِيعَة لوہے کی خود۔ اليَرْبُوع جمع يَرَابِيع (ح) ایک قسم کا چوہا جس کے اگلے پاؤں چھوٹے اور پچھلے لمبے ہوتے ہیں۔

۷ رَبَعَ ـ رَبْعًا (گھوڑے کا) سرپٹ دوڑنا۔ ـ بیٹھنا، آلتی پالتی مارنا، چارزانو بیٹھنا، پالتی مار کر بیٹھنا، رہنا، ٹھہرنا، قیام کرنا۔ رَبَّعَ ھ کو چوگنا کرنا، کو چار سے ضرب دینا، چار گنا کرنا، کو مربع بنانا، کا مربع کرنا۔ تَرَبَّعَ: بیٹھنا، چارزانو بیٹھنا۔ تَرَبَّعَ على العرش تخت پر بیٹھنا، چڑھنا۔ رَبْع جمع رُبُوع و رِبَاع و اَرْبَاع و اَرْبُع: گھر، رہائش گاہ، کوارٹر۔ رُبُوع: علاقہ، خطہ، عملداری، قلمرو، رقبہ، زمین۔ رَبْع لوگوں کا گروہ، لوگ۔ الربع الخالي جنوبی عرب کا ریگستانی علاقہ۔ رِبْع: حُمَّى الرِّبْع چوتھیا بخار، باری کا بخار۔ رُبْع جمع اَرْبَاع: چوتھائی، چوتھا حصہ، ایک خشک اشیاء ناپنے کا پیمانہ۔ رُبْع سَنَوِيّ سہ ماہی۔ رُبْعَة القَوَام و ربعة القامة درمیانہ قدکا، درمیانہ جسم کا۔ رُبْعَة خشک اشیاء ناپنے کا ایک پیمانہ۔ رَبَّاع: کھلاڑی (مکہ باز، کشتی باز، ویٹ لفٹر وغیرہ)۔ رَبِيع: موسم بہار، چوتھائی، چوتھا حصہ۔ اَرْبَعَة مونث اَرْبَع: چار۔ ذَوَاتُ الاربع: چوپائے۔ اَرْبَعَة عَشَر مونث اَرْبَعَ عَشْرَة: چودہ (۱۴)۔ اَرْبَعُون: چالیس۔ الاربعون: چالیسواں (کسی مرنے والے کی وفات کے بعد چالیسویں دن کی تقریب)۔ عِيدُ الاَرْبَعِين: حضرت عیسی علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا تہوار۔ رُبَاعِي چار پر مشتمل، چار گنا، چوگنا، چوہرا، چار تہ والا، چار حصوں پر شامل، چار پہلو، چوکھونٹا، چوگوشیہ، چوگوشہ شکل کا، چار زاویوں والا، چوگوشہ، چار اصلی حروف پر مشتمل، رباعی، چومصرعہ، جمع رُبَاعِيَات: رباعی، دوبیتی (شعر)۔ مُؤتَمَرٌ رُبَاعِيّ: چار ملکی کانفرنس۔ رُبَاعِي الاضلاع: چوگوشہ۔ رباعِي الأرجل: چوپایہ، چار پاؤں والا۔ مُحَرِّكٌ رُبَاعِيُّ المِشْوار: چار چکروں والا انجن۔ الاَرْبِعاء و يوم الاربعاء: بدھ (کا دن)۔ يَرْبُوع جمع يَرَابِيع: چوہا اگلی چھوٹی اور پچھلی بڑی ٹانگوں والا۔ مَرْبَع جمع مَرَابِع: چراگاہ، گھاس والا قطعہ زمین۔ تَرْبِيع: قمری سہ ماہی۔ چوگوشہ شکل، چہارزاویہ شکل، مربع، چوکور۔ تَرْبِيعُ الدائرة: چکر کے نو درجے کے

زاویہ کا فاصلہ۔ تَرَابِیْعَة جمع تَرَابِیع مربع، چوگوشہ شکل، چہار زاویہ شکل، چوکور، چار دیواری، احاطہ، صحن، چوک، مربع منقش تختہ، ٹائل، فرشی ٹائل۔ تَرْبِیعی مربعی، مربع۔ الرابع چوتھا۔ رابِعًا چوتھے، چوتھے نمبر پر، چوتھی بات یہ کہ۔ مَرْبُوع درمیانے قد کا، درمیانے حجم کا۔ مُرَبَّع چہار تھوں والا، چار گنا، چوگنا، چوہرا، چہار پہلو، چوکور، چوگوشیہ، چوگوشہ شکل کا، چارزاویوں والا، مربع، مربع کا، چوگوشہ شکل، چہارزاویہ شکل، جمع مُرَبَّعات چہار پہلو ٹکڑا، چوکھونٹا ٹکڑا، چوگوشیہ ٹکڑا، مربع۔ مِتْر مربع مربع میٹر۔ مُرَبَّعُ الاضلاع چوگوشہ۔ مُرَبَّعَة جمع مُرَبَّعات سیکشن، ضلع، علاقہ، خطہ۔ مُرَابِع زرعی کام میں شریک جو پیداوار یا نقصان میں ایک چوتھائی کا حصہ دار ہو۔ جَلَسَ مُتَرَبِّعًا آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا۔

ربع رَبِعَ - رَبْعًا القومُ فی النعیم خوش حال اور آسودہ زندگی گزارنا۔ رَبِعَ - رَبْعًا عیشُہُ زندگی میں فراخ حالی نصیب ہونا۔ - الرجلُ بدکار و بے حیا ہونا صفت: رَبِع۔ رَبُعَ - رَبَاعَةً بہت ہونا، کثیر ہونا۔ الأربَعُ زیادہ، وسیع۔

○ رَابِع خوشگوار، خوش آئند، مرغوب، پسندیدہ، پرلطف، آرام دہ، آسودہ، سکھی، خوشحال۔

ربق رَبَقَ - رَبْقًا ہُ کو پھندے سے باندھنا۔ ــــ ہُ فی الامر کو کام میں ڈالنا۔ رَبَّقَ ہُ کو پھندے سے باندھنا۔ کہا جاتا ہے: رَبَّقَ الرجلُ أثناءَ حَبْلِہِ ارْبَاقَہُ اس نے اپنی بکری کے بچوں کے لئے رسی کا پھندا بنایا۔ ــــ ہ فی الأمر کو کام میں ڈالنا۔ ــــ الکلام تقریر کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔ تَرَبَّقَ ہُ کو لٹکانا۔ کہا جاتا ہے: تَرَبَّقْتُ الشیءَ فی عُنُقی میں نے اس چیز کو اپنی گردن میں لٹکایا۔ اِرْتَبَقَ فی الحِبَالَةِ پھندے میں پھنسنا۔ ــ فی الامر کسی کام میں پھنسنا۔ اِرْتَبَقْتُ فی حبالِہِ میں اس کی جعل سازی میں پھنس گیا۔ الرِبْق پھندوں والی رسی۔ الرِّبْقَة و الرُّبْقَة جمع رِبَق و رِبَاق و أرباق رسی میں پڑا ہوا پھندا۔ کہا جاتا ہے: حَلَّ ربقتہُ اس نے اس کی تکلیف ٹال دی۔ نقضوا الحِبالَ واکلوا الرِبَاقَ انہوں نے اپنے عہدو پیمان توڑ دیئے۔ الرَبِیق پھندے میں بندھا یا پھنسا ہوا۔ المُرَبَّقَة چربی والی روٹی۔

○ رِبق کپڑے چمڑے کا پھندا یا کمند، گھوڑوں کو پکڑنے کی رسی یا چمڑے کا پھندا۔ رِبْقَة و رُبْقَة جمع رِبَق و رِبَاق و أرْبَاق: کمند، پھندا، پھانسی، جال، دام۔

ربك رَبَكَ - رَبْكًا الشیءَ کو ملانا، خلط ملط کرنا۔ ــــ الرَبِیکَةَ مٹی گھولنا، گدلا کرنا۔ ــــ ہُ کو کیچڑ میں ڈالنا۔ رَبِکَ - رَبَکًا پر معاملہ گڈمڈ ہونا، بوکھلا جانا۔ صفت: رَبِك و رَبِیك۔ ارتبك فی الامر کسی معاملہ میں پھنس جانا اور اس سے چھٹکارا نہ پاسکنا۔ ــــ فی الوحل کیچڑ میں گرنا۔ ــــ فی کلامِہِ گفتگو میں اٹکنا۔ ــــ الصیدُ فی الحبالة شکار کا جال میں تڑپنا، پھڑ پھڑانا۔ ــــ الامرُ معاملہ کا پیچیدہ ہونا۔ اِرْبَاكَ اِرْبِیکَاکًا رایہُ کی رائے کا گڑ بڑ ہو جانا۔ ــــ الرجلُ عن الامر کام سے رک جانا۔ الربیکة گارا۔ دودھ ملا ہوا مکھن۔ کہا جاتا ہے: زَعَمَاہُ بِرَبِیکَةٍ اس نے اس کو ایک پیچیدہ معاملہ میں پھنسادیا۔ ــــ والرَبِیك و الرُبُوك پنیر، کھجور اور گھی سے تیار کیا ہوا کھانا جو کبھی اس میں پانی ملا کر پیا جاتا ہے۔ الأرْبَكُ من الابل سیاہ رنگ کا اونٹ۔

○ رَبَكَ - رَبْكًا ہ کو مکدر کرنا، گدلا کرنا، میلا کرنا، خراب کرنا، خلط ملط کرنا، الجھانا، کو پیچیدہ کرنا، میں الجھاؤ ڈالنا۔ ــــ ہ/ ہ کو الجھانا، بوکھلانا، گڈمڈ کرنا، پریشان کرنا، کو الجھن میں ڈالنا، درہم برہم کرنا۔ رَبِكَ - رَبَكًا: کسی الجھی اور مشکل حالت یا صورت میں ہونا۔ اِرْتَبَكَ بوکھلانا۔ ــــ فی میں پھنس جانا۔ رَبَك مشکل اور الجھی ہوئی حالت، صورت۔ رَبِك الجھا ہوا، بوکھلایا ہوا، مشکل میں، مشکلات سے گھرا ہوا۔ اِرْتِبَاك جمع اِرْتِبَاکات پریشانی، دشواری، الجھاؤ، پیچ، لپیٹ، گتھی، مشکل معاملہ، گرہ، پیچیدگی، الجھن، مشکل، بے ترتیبی، بدنظمی، ابتری، گڑ بڑ، بری یا گندی حالت، کھچڑی، افراتفری، پراگندگی، خلط ملط، پریشانی، گھبراہٹ، پیٹ کی خرابی، ہاضمہ کی خرابی۔ مُرْبِك الجھن میں ڈالنے والا، بوکھلانے والا، پریشان کن، حواس باختہ کرنے والا، بدحواس کرنے والا، گھبرا دینے والا، کام بگاڑ دینے والا۔ مُرْتَبِك بوکھلایا ہوا، پیچیدہ، پھنسا ہوا، پریشان، حواس باختہ، بدحواس، گھبرایا ہوا۔ ــ فی میں پھنسا ہوا۔

ربل ۱۔ رَبَلَ - رَبْلًا القومُ قوم کی تعداد کا زیادہ ہونا، بڑھنا۔ ــــ ت المَرَاعِی چراگاہوں میں گھاس کا بکثرت ہونا۔ رَبَّلَ و أرْبَلَ المکانُ کسی جگہ کا خزاں کے پودے اگانا۔ تَرَبَّلَ موسم خزاں کی سبزی کھانا، پر گوشت ہونا۔ ــــ جسمُہُ کے جسم کا پھولنا۔ ــ القومُ موسم خزاں کی سبزی چرانا۔ ــ ت الارضُ زمین کا خریف کی سبزی سے ہرا بھرا ہونا۔ خزاں کے آنے پر خشک ہو جانے کے بعد سرسبز ہونا۔ اِرْتَبَلَ مالُہُ کا مال زیادہ ہونا۔ الرَّبْل جمع رُبُول بغیر بارش کے پھوٹنے والے پودے وغیرہ۔ الرَبْل (ن): بہت سبز پودا، روئیدگی۔ رَجُلٌ رَبِلٌ جسیم آدمی۔ الرَبْلَة و الرَبَلَة جمع رَبَلات رانوں کی جڑیں، ہر جگہ کا موٹا گوشت۔ الرَبِیل موٹا، فربہ۔ الرَبِیلَة: فربہی، رطوبت، نعمت، زندگی کی آسودگی۔ الرَبَالَة: گوشت کی کثرت۔ کہا جاتا ہے: ضمر بعد رَبَالةٍ وہ گوشت کی کثرت کے بعد دبلا پتلا ہو گیا۔ الرِئبَال جمع رَبَابِیل دراز اور لپٹی ہوئی نبات۔ المِرْبال وہ زمین جس میں خزاں کے موسم میں جھاڑیاں یا درخت بکثرت ہوں۔

۲۔ رَابَلَ بدکردار ہونا، برائی کی تاک میں رہنا۔ تَرَبَّلَ شکار کرنا۔ تَرَابَلَ لوٹ ڈالنا اور شیر کا سا کام کرنا۔ الرِئبَال چور جو تن تنہا لوٹ ڈالے۔ الرِئبال جمع رَبَابِیل شیر۔

○ رَبِل فربہ، جسیم، موٹا تازہ، گوشت دار، لحیم شحیم (شخص)۔ رَبْلِی و رَبَلی: گوشت دار، فربہ، لحیم شحیم، گداز۔ رَبْلَة جمع رَبَلات (جسم کے) گوشت (کا ڈلا)۔ رَبِیل گوشت دار، گداز، موٹا، فربہ، لحیم شحیم۔ رَبَالَة موٹاپا، فربہی۔

ربن أرْبَنَ ہُ: کو بیعانہ دینا۔ تَرَبَّنَ جہاز کا کپتان بننا۔ الرَبُون و الاربون و الأرْبَان: بیعانہ۔ الرُبَّان و الرُبَّانِی جمع رَبَابِنَة و ربابین جہاز کا ملاح، جہاز کا کپتان۔ رُبَّان کل شیء ہر چیز کا بڑا حصہ، زمرہ۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَہُ بِرُبَّانِہِ اَوْ بِرَبَّانِہِ اس نے اس کو پورا کا پورا لے لیا۔

ربعاد دیکھو رُبُّت۔

ربا ۱۔ رَبَا - رَبْوًا و رُبُوًّا المالُ مال کا زیادہ ہونا، بڑھنا۔ رَابَی مُرَابَاۃً سود پر مال دینا۔ أرْبَی اِرْبَاءً سود لینا۔ ــ الشیءَ چیز کو بڑھانا۔ ــ علیہ فی کذا و اِرْبَاءً اِرْتَبَاءً میں کو زیادہ کرنا۔ الرِبَاء سود، زیادتی، بیاج۔ رِبَوِی سودی، سود کا، سود کے متعلق۔ الرَبْو جمع أرْبَاء جماعت۔ الرَبَاء زیادتی، احسان، مہربانی۔ کہا جاتا ہے: لِفُلانٍ عَلَیَّ رَبَاءٌ فلاں شخص کا مجھ پر احسان اور مہربانی ہے۔ الرُبُوَّة (ع ح) دس لاکھ (عشر کرّات) یاد رہے کہ الکرّة ایک لاکھ یعنی مائة الف کو کہتے ہیں۔ الرِبْوَة جمع رِبَی دس ہزار کے قریب لوگوں کی جماعت۔

۲۔ رَبَا - رَبْوًا و رُبُوًّا الولدُ بچہ کا نشوونما پانا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے: رَبَیْتُ و رَبِیتُ رَبَاءً و رَبِیًّا میں نے

نشوونما پائی۔ رَبَّی تَرْبِیَةً و تَرَبَّی الولدَ: بچہ کو پالنا، بچہ کی پرورش کرنا، بچہ کو مہذب بنانا۔ رَابَی مُرابَاةً الرجلَ: کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اَرْبَی اِرْبَاءً ہٗ: کو امید دلانا۔ الأَرِبَّة: گھر کے مرد، چچازاد بھائی۔ کہا جاتا ہے: جاء فی أُرْبِیَّةِ قومِهِ: وہ اپنے گھر والوں اور قبیلہ کے لوگوں میں آیا۔

۳۔ رَبَا ـ رِبَاءً و رُبُوًّا الرابیةَ: ٹیلہ پر چڑھنا۔ الرَبْوا اَرْبَاء: ٹیلہ۔ الرَابِیَة جمع رَوَابٍ و الرُبْوَة و الرَبْوَة و الرِبْوَة جمع رُبًی و رُبِیّ: ٹیلہ۔ الرَبَاة و الربـاوَة: ٹیلہ۔ الأُرْبِیَّة (ع ا): ران کی جڑ یا اوپری حصے اور پیٹ کے درمیان کا حصہ۔

۴۔ رَبَا ـ رَبْوًا الفرسُ: گھوڑے کا پھولنا، گھوڑے کا بھاگنے سے سانس چڑھنا۔ الربْو جمع اَرْبَاء: چڑھا ہوا سانس۔ — والرَبْوَة (طب): جوف کی سوجن، ضیق النفس۔

۵۔ رَبَّی التفاحَ او غیرہ بالسکّر: سیب وغیرہ کا مربہ ڈالنا۔ المُرَبَّی (ط): پھلوں کا مربہ یا نشاستہ وغیرہ میں شکر ڈال کر بنائی ہوئی مربہ نما مٹھائی۔

۶۔ الرُبَیَّة (ح): حشرات الارض کی قسم کا ایک کیڑا۔

◯ رَبَا ـ رَبَاءً و رُبُوًّا: زیادہ ہونا، بڑھنا۔ — علی/عن: (تعداد) سے زیادہ ہونا۔ مایربو علی المئة: سو سے زیادہ۔ رَبَّی: بڑھانا یا بڑھنے دینا۔ — ہٗ: کو پالنا، پوسنا، پرورش کرنا، کی تربیت کرنا، کو تعلیم دینا، بچہ کو پڑھانا، سکھانا۔ — ہٗ: (مرغیوں، چوپائے، مویشی) کی پرورش کرنا، کی نسل بڑھانا، (اسلوب وغیرہ) کو ترقی دینا۔ رَابَی: سودی کاروبار کرنا۔ اَرْبَی ہٗ: کو بڑھانا، زیادہ کرنا۔ — علی: (تعداد، عمر، پیمانہ) سے زیادہ ہونا۔ تَرَبَّی: پرورش پانا، تعلیم حاصل کرنا۔ رَبْو: ضیق النفس، دمہ۔ رُبْوَة و رِبْوَة جمع رُبًی: پہاڑی ٹیلہ۔ رِبْوَة جمع رِبْوَات: دس ہزار، لاکھوں۔ رِبًا: سود، بھاری سود۔ رِبَوِیّ: بھاری سود پر قرض دینے والا۔ رَبَاء: بیشی، زیادتی، فاضل مقدار، مہربانی، احسان۔ — علی: پر برتری۔ تَرْبِیَة: تعلیم، تربیت، پڑھانا، سکھانا، علم تعلیم، فن تعلیم، پرورش (حیوانات) نسل کشی۔ سیئی التربیة: بدتربیت، ناشائستہ۔ قلیلُ التربیة: بداطوار، بدتربیت، کج خلق، بداخلاق۔ علم التربیة: علم یا فن تعلیم۔ تَرْبِیَةُ الأَطْفَال: بچوں کی نگہداشت۔ التربیة البدنیة: جسمانی تربیت۔ تربیة الحَیَوَان: مال مویشی پالنا۔ تربیةُ الدَجَاج: چوزے پالنا، مرغیاں پالنا۔ تربیة السَمَك: مچھلیوں کی پرورش۔ تربیة النباتات: پودوں کی زراعت، پودے لگانا۔ تَرْبَوِی و تَرْبِیَوِی: مدرسی، معلمانہ۔ رَابِیَة جمع رَوَابٍ: پہاڑی، ٹیلہ۔ مُرَبٍّ جمع مُرَبُّون: تعلیم دینے والا، معلم، مدرس، ملاں، میاں جی (مال مویشی کی) پرورش کرنے والا۔ مُرَبِّیَة جمع مُرَبِّیَات: اُستانی، آتون، آتو، آتو جی، گورنس۔ مُرَبًّی: تربیت دیا گیا، تعلیم دیا گیا، پرورش کیا گیا، اچھی تربیت والا، اچھے اطوار والا، جام، پھلوں کا مربہ۔ (جمع) مُرَبَّیَات: مربہ جات۔ مُرَابٍ: سودخوار، سودخور، بنیا، مہاجن۔ مُتَرَبٍّ: اچھی تربیت والا، اچھے اطوار والا۔

◯ رِبُورتَاج جمع ربورتاجات: رپورٹ، رپورتاژ۔

رتّ: ا۔ رَتَّ ـ رَتًّا: ہکلانا، تتلانا صفت: اَرَتّ مؤنث رَتَّاء و رُتّی جمع رُتّ۔ اَرَتَّ اِرْتَاتًا ہُ اللّٰہُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہکلا کرنا یا بنانا۔ الرَتّ جمع رُتُوت: سردار، پیشوا۔ کہا جاتا ہے: هو من رُتُوتِ الناس: وہ لوگوں کا ایک سردار ہے۔ — جمع رِتَتَة: سخت نر سور، جنگلی سور۔ الرُتَّة: ہکلاپن، تتلاپن۔

۲۔ رَتْرَتَ: "تا" یا "را" بولنے میں اٹکنا، ہکلانا۔

◯ اَرَتّ مؤنث رَتَّاء جمع رُتّ: ہکلا، تتلا۔

رتأ: رَتَأَ ـ رَتْوءًا ہٗ: کا گلا گھونٹنا۔ — العقدةَ: گرہ سخت لگانا۔ — فی المکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ — الرجلُ: چلا جانا۔ اِرْتَتَأَ: رک رک کر ہنسنا۔

رتب: ا۔ رَتَبَ ـ رَتْبًا و رُتُوبًا الشیءُ: چیز کا اپنی جگہ بلاحرکت ثابت و قائم رہنا، سیدھا کھڑا ہونا۔ کہا جاتا ہے: رَتَبَ فی الصلوة: وہ نماز میں سیدھا کھڑا رہا۔ رَتَّبَ ہٗ: کو قائم رکھنا۔ اَرْتَبَ: سیدھا کھڑا ہونا۔ — الغلامُ الکعبَ: لڑکے کا ایڑی کھڑی کرنا۔ تَرَتَّبَ: بلاحرکت و جنبش کھڑا ہونا۔ الراتِب جمع رَوَاتِب: تنخواہ۔ عیش راتِب: دائمی عیش۔ الرَوَاتِب: سنن موکدہ۔ التُرْتُب و التُرْتَب: قائم و ثابت چیز، دوام، ہیشگی، مٹی، غلام جو تین آقاؤں کی غلامی میں رہ چکا ہو۔ الرَتِیب: ہمیشہ ایک ہی طرح پر رہنے والا۔

۲۔ رَتَّبَ ہٗ: کو ترتیب دینا، درجہ پر رکھنا۔ اَرْتَبَ: غنی کے بعد سوال کرنا۔ تَرَتَّبَ: ترتیب میں ہونا۔ الرَتْب: چھنگلیا اور اس کے برابر والی انگلی کے درمیان کا فاصلہ اور چھنگلیاں کے برابر والی اور بیچ کی انگلی کے مابین جگہ۔ الرَتَب: بمعنی الرُتْب، سختی، دشواری، ابھری ہوئی زمین، قریب قریب چٹانیں جو ایک دوسرے سے بلند ہوں۔ الرتیب (ا ع): فوجی عہدیدار جیسے لیفٹیننٹ، سارجنٹ وغیرہ۔ الرُتْبَة جمع رُتَب: درجہ، مرتبہ۔ الـرَتَبَة: انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔ المَرْتَبَة جمع مَرَاتِب: درجہ، اعلیٰ درجہ۔ التراتُب (ا ع): فوجی درجوں کا سلسلہ۔

۳۔ التُرْتُبَّة: نیم راستہ۔

۴۔ رُتْباغا او رُوتاباغا (ن): کرم کلا، بند گوبھی۔

◯ رَتَّبَ ہ: کی صف بندی کرنا، کو ترتیب دینا، کو حسب مرضی استعمال کرنا، کو آراستہ کرنا، سجانا، آراستہ پیراستہ کرنا، مزین کرنا، دکان کی کھڑکی مال سے سجانا، کو معین کرنا، طے کرنا، کو باقاعدہ بنانا، نظام کے تحت لانا، کو ترتیب سے رکھنا۔ — ہ: کو تیار کرنا، الگ کرنا، مخصوص کرنا، خاص مقصد کے لئے متعین کرنا۔ — ہ ل: کے لئے (تنخواہ) مقرر کرنا۔ — ہ علی: کو کا نتیجہ بنانا، کو سے حاصل کرنا، کو سے مشتق کرنا، کو کا انجام بنانا۔ تَرَتَّبَ: مرتب ہونا، منظم ہونا، قائم ہونا، ایک طرف رکھا جانا، الگ کیا جانا، مقرر ہونا۔ — علی: کا ماتحت ہونا، کا نتیجہ یا انجام ہونا، کے نتیجہ کے طور پر واقع ہونا، سے مشتق ہونا، سے نکلنا، اچانک آجانا، سے نتیجہ نکلنا، کے باعث ہونا۔ ترتّب بذمّتِهِ: کا مقروض ہونا، قرض دار ہونا۔ رُتْبَة جمع رُتَب: ڈگری، درجہ، گریڈ، سطح، عہدہ، بڑی یا مسلمہ حیثیت، رتبہ، حیثیت، منصب، طبقہ، خوبی کمال، فوجی عہدہ، پادریوں کا منصب، پادری کا رتبہ، مذہبی رسوم۔ کتاب الرتب: (رومن کیتھولک چرچ کے مراسم)۔ رَتَابَة: اکتا دینے والی یکسانی۔ رَتِیب: یکسانی کے باعث اکتا دینے والا۔ رُتَبَاء: نان کمشنڈ افسران (فوج میں)۔ مَرْتَبَة جمع مَرَاتِب: قدم، سیڑھی کا ڈنڈا، گدا، گریڈ، ڈگری، عہدہ، طبقہ۔ تَرْتِیب جمع تَرْتِیبَات: ترتیب، انتظام، اہتمام، صف بندی، سجاوٹ، آراستگی، سلسلہ، تسلسل، تواتر، بناوٹ، نظام، ترتیب (مکانات کی)، تنظیم، تیاری، انتظام، قدم، بہم رسانی عشائے ربانی کی رسم۔ بالترتیب: ایک ایک کرکے، مناسب تسلسل میں۔ من غیر ترتیب: بے ترتیب، بے سلیقہ، بے ترتیبی میں۔ تَرْتِیبِیّ: ترتیبی (عدد)۔ عدد ترتیبی: ترتیبی عدد۔ رَاتِب: یکسانی کے باعث اکتا دینے والا جمع رَوَاتِب: تنخواہ، مشاہرہ، جمع رَوَاتِب: عبادت کی بعض نفلی شکلیں۔ مُرَتَّب: انتظام کیا ہوا، منظم کیا ہوا، قانون کے مطابق بنایا ہوا وغیرہ جمع مُرَتَّبَات: تنخواہ مشاہرہ۔

رتج: ا۔ رَتَجَ ـ رَتْجًا البابَ: دروازہ بند کرنا۔ رَتِجَ ـ رَتَجًا الخطیبُ: مقرر کا تقریر میں رکنا، پر کلام کا دشوار ہونا۔ اَرْتَجَ البابَ: دروازہ کو مضبوطی سے بند

کرنا۔ ـــ ت الدجاجۃُ: مرغی کے پیٹ کا انڈوں سے بھر جانا۔ ـــ البحرُ: سمندر کا جوش میں آنا۔ ـــ الثلجُ: برف کا پیہم گرنا۔ اُرتِجَ و اُرتُتِجَ و استُرتِجَ علی الخطیب: مقرر کا تقریر میں رکنا۔ سکّۃٌ رِتْجٌ: بند گلی۔ مالٌ رِتْجٌ: ناقابل حصول مال۔ الرَّتَجُ و الرِّتاجُ: بڑا دروازہ، پھاٹک، بڑا بند دروازہ جس میں کھڑکی ہو۔ الرِّتاجۃ جمع رَتائِج: چٹان۔ ـــ و المُرتَجُ جمع مَراتِج: تنگ راستہ۔ المِرتاج: چٹخنی جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہے۔

۲۔ رَتَجَ ـُ رُتُجاناً الصبیُّ: بچہ کا چلنے لگنا۔

۳۔ اَرتَجَ الخصبُ: سرسبزی کا عام ہونا۔ مکانٌ مُرتِجٌ: بہت سبزہ والی جگہ۔

○ رَتَجَ ـُ رَتْجاً ہ: (دروازے وغیرہ) کو قفل لگانا، تالا لگانا، کو بند کرنا، دروازے کی بلی لگانا، دروازے کی چٹخنی چڑھانا۔ رَتِجَ ـَ رَتَجاً: کی زبان کو تالا لگ جانا، بے زبان ہونا، ہکلانا۔ اُرتِجَ علیہ: کی زبان سے بات نہ نکلنا، بے زبان ہو جانا، کی سمجھ میں نہ آنا کہ کیا کہے، (کیلئے) موزوں الفاظ نہ ملنا۔ رِتاج جمع رُتُج و رَتائِج: پھاٹک، راستہ، گذرگاہ۔ مُحْکَمُ الرِّتاج: مضبوطی سے چٹخنی لگایا ہوا (پھاٹک)۔

○ رَتِیج بمعنی رَاتینج: بروزہ، گندا بروزہ۔

رتخ: رَتَخَ ـُ رُتُوخاً بالمکان: کسی جگہ رہنا، قیام کرنا۔ ـــ عن الخیر: بھلائی سے پیچھے رہنا، رکنا۔ ـــ العجینُ: گندھے ہوئے آٹے میں پانی زیادہ ہونے سے اس کا پتلا ہو جانا۔ الرَّتَخۃ: سخت کیچڑ، دلدل۔ جلدٌ اَرتَخ: خشک یا سخت چمڑا۔

رتع: ۱۔ رَتَعَ ـَ رَتْعاً و رُتُوعاً و رِتاعاً: خوشحال ہونا، جو چاہنا حاصل کر لینا۔ ـــ فی المکان: کسی جگہ خورد و نوش کی پوری آسودگی و فراوانی سے رہنا۔ صفت: رَاتِع جمع رُتَّع و رُتَّع و رِتاع و رُتُوع و رَاتِعُون۔ ـ فی مال فلان: کسی کے مال میں کھانے پینے میں خوب موج اڑانا۔ اَرتَعَ القومُ: لوگوں کا سرسبز و شاداب زمین میں پہنچنا اور مویشی چرانا۔ ـ ت الارضُ: چرنے والے کو آسودہ و سیر کرنا۔ ـــ الغیثُ: بارش کا چارہ اگانا۔ ـ الدوابَّ: مویشیوں کو چرنے دینا۔ الرَّتِع: اپنی سب مرادیں پانے والا آسودہ حال۔ کَلأٌ رَتِیع: چرنے والے کے لئے کافی گھاس۔ الرَّتْعۃ: سرسبزی و شادابی کی کثرت۔ کہا جاتا ہے: اَسْمَننی القیدُ و الرتعۃ: قید و آسودگی نے مجھ کو فربہ کر دیا۔ المُرتِع: آسودہ حال جس کو سب کچھ ملے۔ المَرتَع: چراگاہ۔ الرَّتّاع: اپنے اونٹوں کو شاداب چراگاہوں میں لے جانے والا۔ الاَرْتاعُ من الناس: لوگوں کی کثرت۔ کہا جاتا ہے: رایتُ اَرتاعاً من الناس: میں نے لوگوں کی کثرت دیکھی۔

۲۔ رَتَعَ ـَ رَتْعاً و رُتُوعاً و رِتاعاً فی لحمِ فلان: کسی کی غیبت کرنا۔

○ رَتَعَ ـَ رَتْعاً و رُتُوعاً و رِتاعاً: (مویشیوں کا) چراگاہ میں چرنا، گھاس چرنا۔ ـــ: بہت زیادہ کھانا، جانوروں کی طرح کھانا، ڈٹ کر شراب پینا، کھل کھیلنا، کھل کر شراب پینا اور عیش اڑانا، بلانوشی کرنا اور داد عیش دینا، اچھی اچھی چیزیں کھانا۔ ـ فی: سے لطف اندوز ہونا، کو جی بھر کے کرنا۔ اَرتَعَ ہ: مویشیوں کو چراگاہ میں چرانا، کو باہر چرنے کے لئے چھوڑ دینا۔ مَرتَع جمع مَراتِع: سرسبز چرنے کی جگہ، چراگاہ۔ ـ ل: کے لئے زرخیز زمین۔ مرتع: جرائم اور برائی وغیرہ پیدا کرنے کی جگہ۔

رتق: رَتَقَ ـُ رَتْقاً الثوبَ: کپڑے کی پھٹن کو درست کرنا، جوڑنا۔ ـ الفتقَ: پھٹن کی اصلاح کرنا۔ کہا جاتا ہے: رَتَقَ فَتْقَھُم: اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی۔ ـ الشیءَ: چیز کو بند کرنا۔ اِرْتَتَقَ الشیءُ: چیز کا جڑ جانا۔ الرَّاتِق (فا): مصلح، درست کرنے والا، اصلاح کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: ھو الراتِق و الفاتِق: وہ معاملہ کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ الرَّتائق: دو کپڑے جن کے کنارے جوڑ دیئے ہوں۔ الرَّتَقۃ جمع رَتَق: انگلیوں کے درمیان کی کشادگی۔ الرُّتُوق: بزرگی، عزت، شرف۔

○ رَتَقَ ـُ رَتْقاً ہ: کی مرمت کرنا، کو جوڑ جاڑ کر ٹھیک کرنا، پھٹی ہوئی جگہ کو سی دینا۔ رَتْق جمع رُتُوق: جوڑنا، مرمت کرنا، مرمت، رفو (جراب وغیرہ کا)۔

رتك: رَتَكَ ـُ رَتْكاً و رَتَكاً و رَتَكاناً البعیرُ: اونٹ کا چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑنا، پویا دوڑنا۔ اَرتَكَ البعیرَ: اونٹ کو پویا دوڑانا۔

○ رَتَكَ ـُ رَتْكاً و رَتَكاً و رَتَكاناً: چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑنا، ڈُکی چلنا۔ مَرتَك: سیندور، مردار سنگ۔

رتل: ۱۔ رَتِلَ ـَ رَتَلاً الشیءُ: اچھے انتظام و ترتیب میں ہونا، صفت: رَتَل۔ رَتَّلَ الکلامَ: کلام کو اچھی ترتیب دینا۔ ـــ القرآنَ: قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوش اسلوبی سے پڑھنا۔ ـ الصلواتِ: مناجات گنگنانا۔ تَرَتَّلَ فی القول: ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح بولنا۔ الرَّتَل (مص): عمدہ کلام، ہر پاکیزہ چیز۔ (اع) مسلح حفاظتی دستہ۔ ثغرٌ رَتَل: خوبصورت ہموار دانت۔ رَتَلُ السیارات: کاروں کا جلوس۔ الاَرْتَل: اچھی ترتیب والا۔ التَّرتیل: خوش آوازی، پڑھتے وقت آواز کو ست اور ہلکی کرنا، گانے اور نماز پڑھنے میں خوش الحانی یا حسن ادائیگی۔ التَّرتِیلَۃ جمع تَراتِیل: (مسیحی اصطلاح میں) ترنم سے پڑھی جانے والی حمد باری تعالی۔

۲۔ الاَرْتَل: ہتلانے والا۔ الرُّتَیلاء جمع رُتَیلاوات (ح): کیڑے مکوڑے جیسے مکھی مکڑی۔ (ن): سوسن کے پھول کے مشابہ پھولوں والا پودا۔

○ رَتَلَ ـُ رَتْلاً: باقاعدہ ہونا، باضابطہ ہونا، اچھی ترتیب والا ہونا، صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا۔ رَتَّلَ الکلامَ: اپنی بات کو خوبصورتی سے ادا کرنا۔ ـــ: مناجات گانا، یکساں لہجہ میں خوش الحانی سے پڑھنا۔ ـــ ہ: دینی گانے، یا حمد کے گانے گانا۔ رَتَل جمع اَرتال: ریلوے ٹرین۔ رتل آلیّ: موٹروں کا دستہ۔ رُتَیلاء: کھیتی کی کٹائی کرنیوالا، لم ڈھینگ پتنگا، ترن تلا۔ تَرتِیل: قرآن مجید کی آہستہ تلاوت، مناجات گانا، یکساں آواز میں خوش الحانی سے تلاوت کرنا، حمدیں وغیرہ گانا جمع تراتیل: ترانہ حمد، بھجن، مناجات، مذہبی گیت۔ تَرتِیلَۃ: بھجن، مناجات، ترانہ حمد۔ مُرتِّل: گرجا کا گانے والا، گرجے کی بھجن منڈلی کا نوخیز قوال، گویا، گانے والا، گلوکار، کلاکار، گلاونت، مطرب، نغمہ خواں، گا کر پڑھنے والا۔

رتم: ۱۔ رَتَمَ ـِ رَتْماً ہُ: کو توڑنا، کوٹنا۔ ـ رَتِیماً: رتم کے دانے کھانے سے بیہوشی طاری ہونا۔ الرَّتَم واحد رَتَمَۃ (ن): ایک قسم کا درخت جس کا بیج مسور کے مشابہ ہوتا ہے۔ الرَّتِیم جمع رَتْمیٰ: رتم کھانے سے بیہوش ہونے والا۔

۲۔ رَتَمَ ـُ رَتْماً فی بنی فلان: کسی قبیلہ وغیرہ میں پرورش پانا۔

۳۔ رَتَمَ ـِ رَتِیماً: ست چلنا۔ الرَّتَم: پانی سے بھرا ہوا توشہ دان، سڑک، راستہ۔ الرَّتِیم جمع رَتْمیٰ: آہستہ چال و رفتار۔

۴۔ ما رَتَمَ بکلمۃٍ: وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ الرَّتَم: آہستہ کلام، کامل حیاء۔

۵۔ اَرتَمَ: یادداشت کے لئے انگلی پر دھاگا لپیٹنا۔ اَرتَمتُ زیداً: میں نے زید کی انگلی میں کسی کام کو یاد دلانے کے لئے دھاگا باندھا۔ تَرَتَّمَ و اِرْتَتَمَ: بمعنی اَرتَمَ۔ الرَّتَمَۃ جمع رَتَم و رِتام و الرَّتِیمۃ جمع رَتائِم: وہ دھاگا جو کسی کام کو یاد دلانے کے لئے انگلی میں باندھا جاتا ہے۔

۲۔ الرُّتَام: فانی لاش، (کسی شخص کا) جسم۔ شرٌّ تُرتُمٌ و تُرتَمٌ: دائمی برائی۔

○ رَتَمَ -رَتماً بکلمۃٍ: کوئی لفظ کہنا، بولنا (صرف نفی کے ساتھ)۔ رَتَم (اسم جنس واحد رَتَمَۃ: مسور جیسے بیج اور تیز خشبودار پودے کے پھولوں جیسے پھولوں والا ایک قسم کا درخت۔ رَتمۃ و رَتِیمَۃ جمع رَتَائِم و رِتام: یاددلانے کے لئے انگلی پر باندھا جانے والا دھاگا۔

رتن: ا۔ رَتَنَ -رَتناً الشحمَ بالعجین: گندھے ہوئے آٹے میں چربی ملانا۔

۲۔ الراتِینج او عَرَقُ الشجر (ل): رال، گوند، بروزہ، گندابروزہ۔ الراتِینجِیَّۃ (ن): جنگل کے درختوں کی ایک جنس معتدل آب وہوا کے علاقوں خصوصاً پہاڑی یورپ، ایشیا اور امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ آرائش کے علاوہ اس کی لکڑی صنوبر کے مشابہ ایک درخت کی طرح استعمال کی جاتی ہے۔

رتا: ا۔ رَتَا -رَتْوًا ہُ: کو باندھنا۔ ـــ القلبَ: دل کو تقویت دینا۔ ـــ الدلوَ: ڈول کو نرمی سے کھینچنا، آہستہ سے نکالنا۔ ـــ ہُ الیہ: کو سے ملانا۔

۲۔ رَتَا -رَتْوًا ہُ: کو ڈھیلا کرنا۔ ـــ رَتْوًا و رُتُوًّا برأسہ: سر سے اشارہ کرنا۔ ـــ الرجلُ: قدم رکھنا۔ رُتِیَ فی ذِرَعِہ: اس کا بازو کٹ گیا۔ الرَتْوَۃ: قدم۔

۳۔ الرَتْوَۃ: بلندزمین، لحہ، حدنظر۔ کہاجاتا ہے: بیننا و بینہم رَتْوَۃٌ: ہمارے اور ان کے درمیان حدنظر جتنی دوری ہے۔

○ رَتَا -رَتوا و رَتَّی ہ: جراب وغیرہ کی مرمت کرنا، بھرنا، رفو کرنا۔

○ رِتُوش: نوک پلک درست کرنا۔

○ رتِینج و راتِینج: بروزہ، گندابروزہ۔

○ رَتِینَۃ جمع رَتَائِن: تابندہ شعلہ پوش جالی یا گیس کا مینٹل (mantle)۔

رث: ا۔ رَثَّ -رَثَاثَۃً و رُثُوثَۃً الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا، صفت: رَثٌّ جمع رِثَاث۔ اَرَثَّ اِرْثَاثاً الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ الرَثُّ جمع رِثَاث: گھر کا گھٹیا سامان۔ کہاجاتا ہے: کلامٌ غَثٌّ رَثٌّ: گھٹیا ناکارہ کلام۔ الأرَثّ: بوسیدہ۔ الرَثِیث: بوسیدہ۔ الرِثَّۃ جمع رِثَث و رِثَاث: گھر کا ردی سامان، کمزور لوگ۔

۲۔ اُرْتُثَّ: زخمی کو میدان جنگ سے ایسی حالت میں لایا جانا کہ اس میں زندگی کی رمق باقی ہو۔ صفت: مُرْتَثّ

الرَثِیث: زخمی جس میں زندگی کی رمق باقی ہو۔

○ رَثَّ -رَثَاثَۃً و رُثُوثَۃً: (لباس وغیرہ) کا شکستہ حال ہونا، بوسیدہ ہونا، پھٹا پرانا ہونا، فرسودہ ہونا، خراب اور گھسا ہوا ہونا۔ رَثّ جمع رِثَاث: پرانا، بوسیدہ، گھسا ہوا، فرسودہ، پھٹا پرانا، شکستہ حال، پامال، گھسا پٹا۔ رثُّ الھَیئۃ: پھٹی پرانی وضع۔ رِثّۃ: پرانی دقیانوسی چیزیں، پھٹے پرانے کپڑے۔ رَثِیث: پرانا، پھٹا پرانا، خستہ، فرسودہ، گھسا ہوا، پامال، تارتار۔ رَثَاثَۃ: خستہ حالی، گھر دراپن، ریختہ پن۔ رُثُوثَۃ: بمعنی رَثَاثَۃ۔

رثا: ا۔ رَثَأَ -رَثْأً اللبنَ: دودھ کو گاڑھا کرنا، دہی جمانا۔ ـــ الشیءَ بالشیءِ: چیز کو چیز سے ملانا۔ ـــ غضبَہُ: کا غصہ ٹھنڈا ہونا۔ اَرْثَأَ اللبنُ: دودھ کا گاڑھا ہونا۔ اِرْتَثَأَ اللبنُ: دودھ کا گاڑھا ہونا۔ ـــ الرَثِیئَۃ: دہی پینا۔ ـــ علیہم الامرُ: پر معاملہ کا گڈمڈ ہونا۔ ـــ فی رأیِہ: اپنی رائے میں گڑبڑی کرنا۔ الرَثِیئَۃ: رثَأَ اللبنَ سے اسم، دہی، میٹھا ملا ہوا ترش دودھ۔

۲۔ الرَثْءُ و الرَثْأَۃ: حماقت، کم فہمی، دل کی کمزوری۔ الرَثِیئَۃ: حماقت۔ رجلٌ مَرْثُوءٌ: کمزور دل والا، کم فہم آدمی۔

رثد: ا۔ رَثَدَ -رَثْدًا و اِرْتَثَدَ المتاعَ: سامان کو اوپر نیچے رکھ کر ترتیب دینا۔ رَثِید و مَرْثُود: اوپر نیچے ترتیب سے رکھا ہوا سامان۔ الرَثَد: مرتب ومنظم سامان واسباب۔ رَثَدُ البیتِ: گھر کا ردی سامان۔

۲۔ رَثِدَ -رَثَدًا و اَرْثَدَ الماءُ: پانی کا گدلا ہونا۔

۳۔ اَرْثَدَ القومُ: ایک جگہ بصورت جماعت قیام پذیر ہونا اور کسی اور جگہ نہ جانا۔ کہاجاتا ہے: اِحْتَفَرَ حتی اَرْثَدَ: وہ کھودتے کھودتے تہ زمین تک پہنچ گیا۔ الرِثْد و الرِثْدَۃ: لوگوں کی جماعت جو ایک جگہ پڑاؤ ڈالے رہے۔

۴۔ المَرْثَد و المَرْثِد: فیاض وسخی آدمی۔

رثط: رَثَطَ -رُثُوطًا و اَرْثَطَ و تَرَثَّطَ فی قعودہ: ٹک کر اور جم کر بیٹھنا۔

رثع: ا۔ رَثِعَ -رَثَعاً: بہت لالچ وحرص رکھنا۔ صفت: رَثِعٌ جمع رَثِعُون۔

۲۔ اِرْثَعَنَّ اِرْثِعْنَانًا المطرُ: بارش کا پیہم برسنا۔ ـــ فلانٌ: کمزور اور ڈھیلا ہونا۔ ـــ الشعرُ: بالوں کا لٹکنا۔

رثم: رَثَمَ -رَثْماً الانفَ: ناک توڑ کر خون بہانا۔ رَثِیم و مَرْثُوم: ٹوٹی ہوئی خون بہاتی ناک۔ رَثِمَ -رَثَماً و اِرْثَمَّ الفرسُ: گھوڑے کی ناک کے سرے پر سفید داغ ہونا۔ صفت: رَثِم و اَرْثَم مؤنث رَثِمَۃ و رَثْمَاء جمع رُثْم۔ الرَثَم و

الرُثْمَۃ: گھوڑے کی ناک کے سرے پر کا سفید داغ۔ المَرْثِم و المِرْثَم جمع مَرَاثِم: ناک۔ الرَثْمَۃ جمع رِثَام: ہلکی بارش۔

رثا: ا۔ رَثَا -رَثْوًا المیتَ: میت پر رونا اور اس کی خوبیاں گننا، کے مرثیہ میں اشعار نظم کرنا۔ رَثَی -رَثْیاً و رِثَاءً و رِثَایَۃً و مَرْثَاۃً و مَرْثِیَۃً المیتَ: میت پر رونا اور اس کی خوبیاں گننا۔ ـــ لَہُ: پر شفقت ورحم کرنا۔ ـــ رِثَایَۃً عنہ حدیثًا: کو یاد کرنا۔ رَثَّی و تَرَثَّی المیتَ: میت پر رونا اور اس کی خوبیاں گننا۔ الرَثَّاءَۃ و الرَثَّایَۃ: نوحہ کرنے والی عورت۔ المَرْثَاۃ و المَرْثِیَۃ جمع مَرَاثٍ: مرثیہ، وہ اشعار وغیرہ جس میں میت کی خوبیاں بیان کی گئی ہوں۔ المَرَاثی السبع: عرب کے سات مشہور ومعروف مرثیے۔

۲۔ رَثِیَ -رَثًی و رَثْیاً: جوڑوں میں درد محسوس ہونا۔ الرَثْیَۃ: کمزوری، پژمردگی، حماقت، جوڑوں کا درد۔ الرَثِیَّۃ: کمزوری، پژمردگی، حماقت۔ رجلٌ مَرْثُوءٌ: کمزور عقل والا۔

○ رَثَا -رَثْوًا ہ: مرنے والے پر رونا، کا ماتم کرنا، پر ہاتھ ملنا، غم وافسوس کرنا، آہ وزاری کرنا، نوحہ کرنا، آہ وفغاں کرنا، مرثیہ میں مرنے والے کی تعریف کرنا، جنازہ میں تقریر کے دوران مرنے والے کی خوبیاں بیان کرنا۔ رَثَی -رَثْیاً و رِثَاءً و مَرْثِیَۃً و مَرْثَاۃً ہ: مرنے والے پر رونا، کا ماتم کرنا، پر غم وافسوس کرنا، آہ وزاری کرنا، نوحہ کرنا، آہ وفغاں کرنا، مرثیہ میں مرنے والے کی تعریف کرنا، جنازہ کے دوران تقریر میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کرنا، مرنے والے کا ماتم کرنا، پردرد انگیز اشعار کہنا، کا مرثیہ یا نوحہ لکھنا۔ ـــ لِ: کا افسوس کرنا، ماتم کرنا، غم کرنا، پر ترس کھانا، رحم کرنا۔ رَثَاہُ بمرثاۃٍ: مرنے والے پر دردانگیز اشعار کہنا، مرثیہ یا نوحہ لکھنا، مرنے والے کا ماتم کرنا اور مرثیہ میں اس کی تعریف کرنا اور خوبیاں بیان کرنا۔ شَیْءٌ یُرْثَی لَہُ: قابل رحم، افسوسناک، قابل افسوس (چیز)۔ رِثًی: گریہ، آہ وزاری، ماتم، فغاں، رونا۔ رِثَاء: گریہ، آہ و زاری، ماتم، فغاں، رونا، افسوس، ماتمی اشعار۔ رَثْیَۃ جمع رَثَیَات: گنٹھیا، نقرس۔ مَرْثِیَۃ و مَرْثَاۃ جمع مَرَاثٍ: مرثیہ، نوحہ، ماتمی بحر میں لکھی ہوئی نظم، ماتمی راگ، تدفین کے وقت کا گانا۔

رج: ا۔ رَجَّ -رَجًّا ہُ: کو حرکت دینا، ہلانا۔ ـــ و رُجَّ رَجًّا: ہلنا، متحرک ہونا، حرکت کرنا۔ اِرْتَجَّ البحرُ: سمندر کا موجزن ہونا۔ الرَجَّۃ: ہلنا۔

۲۔ اِرْتَجَّ الکلامُ: گفتگو کا ملتبس ہونا۔ رَجَّۃُ القومِ: کی

آوازوں کا اختلاط۔

۳۔ رَجَـاجُ الغنمِ او الناسِ: کمزور و لاغر بھیڑ بکری یا انسان۔ کہا جاتا ہے: نَعْجَةٌ رَجَاجَةٌ: لاغر بھیڑ۔

۴۔ رَجْرَجَ: بے آرام ہونا، جھکنا۔ ۔۔۔ ہٗ: کو حرکت دینا۔ تَرَجْرَجَ: حرکت کرنا، بے قرار ہونا، کانپنا۔ ۔ الشیءُ فی محلّه: چیز کا اپنی جگہ آنا جانا۔ الرَّجْرَاجُ: بے قرار، بے آرام، متحرک۔ الرِّجْرِج: زور سے ہلتی چیز۔ رِدْفٌ رَجْرَاجٌ: کسی جانور پر پیچھے سوار کا جانور کے چلنے پر ہلنا۔ الرَّجْرَجَة: لڑائی میں بے شمار گروہ۔

۵۔ رَجْرَجَ الماءَ: کھود کر پانی نکالنا۔

۶۔ الرُّجْرُوج (ن): ایک قسم کی گھاس جسے اونٹ چرتے ہیں۔ الرِّجْرِج: تھوک۔ الرَّجْرَاج: دواء۔ ناسٌ رَجْرَاجٌ: کمزور عقلوں والے لوگ۔ الرُّجْرُجَة: تھوک، حوض میں گدلے پانی کا بقیہ، بے عقل شخص۔

○ رَجَّ ـُ رَجًّا ہٗ: کو ہلانا، زور سے ہلانا، جھنجھوڑنا، ہلانا، جلانا، جھولا جھلانا۔ رُجَّ: ہلنا، زور سے ہلنا، کانپنا، لرزنا، تھرانا، رعشہ طاری ہونا، ہچکولے کھانا، جھٹکے کھانا، متحرک ہونا۔ اِرْتَجَّ: جھنجھوڑا جانا، ہلنا، ہچکولے کھانا، جھٹکے کھانا، کانپنا، لرزنا، تھرانا، رعشہ طاری ہونا۔ رَجٌّ: ہلنا، ہچکولے کھانا، جھٹکے کھانا، ہلانا جلانا، جھولا جھلانا، زور سے ہلانا، جھنجھوڑنا، کپکپی، تشنج، اینٹھن۔ رَجَّة: اینٹھن، تشنج، کپکپی، دھکا، چوٹ، ٹکر، صدمہ، جھٹکا، تصادم۔ رَجَّـاج: کانپنے والا، لرزنے والا، تھرانے والا، ہچکولے کھانے والا، جھٹکے کھانے والا، متحرک، ہلنے والا۔ اِرْتِجاج: صدمہ، تصادم، جھٹکا، چوٹ، ٹکر، دھکا، کانپنا، لرزنا، ہلنا، تھرانا، رعشہ طاری ہونا، تھرتھراہٹ، لرزہ، کپکپی، رعشہ، زمین کا ہلنا، خوشی یا غم کی لہر جو جسم میں دوڑ جائے۔ اِرْتِجاجُ المُخّ: دماغی چوٹ، سر کی چوٹ۔

رجا: اَرْجَأَ الامرَ: کام کو مؤخر کرنا۔ ۔۔۔ تِ الحاملُ: حاملہ کا وقت وضع حمل قریب ہونا۔ ۔ الصائدُ: شکاری کا کچھ نہ پانا۔

○ اَرْجَـأَ ہٗ: کو ملتوی کرنا، ٹال دینا، آئندہ کے لئے اٹھا رکھنا، روک دینا، التواء میں ڈالنا، لیت و لعل کرنا، تاخیر کرنا، دیر کرنا۔ اِرجاء: التواء، دیر، توقف، تاخیر، ٹال مٹول، لیت و لعل۔

رجب: ۱۔ رَجِبَ ـَ رَجَبًا منهُ: سے شرمانا۔ ۔۔۔ رَجْبًا و رُجُوبًا و اَرْجَبَ الرجلَ: سے ڈرنا، کی تعظیم کرنا، کی عزت کرنا۔ رَجَّبَ ہٗ: سے ڈرنا، کی تعظیم کرنا۔ ۔۔۔ الرجلُ: ماہ رجب میں جانور ذبح کرنا۔ تَرَجَّبَ: ڈرنا، خوف زدہ ہونا۔ ۔۔۔ الرجلَ: سے ڈرنا، کی تعظیم کرنا، عزت کرنا۔ رَجَب جمع اَرْجاب و رُجُوب و رِجَـاب: جمادی الآخرہ اور شعبان کے مہینوں کے درمیان ساتواں قمری مہینہ، جس کے ۳۰ دن ہوتے ہیں۔ وجہ تسمیہ عربوں کی اس ماہ کی ایام جاہلیہ میں تعظیم و توقیر ہے۔ کہا جاتا ہے: اَجَّلْتُكَ اِلی سبعةِ اَرْجاب: میں نے تمہیں رجب کے سات مہینوں یعنی سات سالوں تک مہلت دی۔ اس بارے میں ایک ضرب المثل ہے۔ عِشْ رَجَباً تَرَ عَجَباً: رجب کے مہینہ تک زندہ رہ، عجائبات دیکھے گا۔ عدت کے زمانہ کو ماہ رجب تک تشبیہ دی گئی ہے۔ حارث بن عباد ثعلبی نے اپنی زبان دراز بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ عورت نے جس شخص کو دوسری شادی کے لئے تیار کیا وہ ایک روز حارث کو مل گیا۔ اس نے یہ بات اُس سے کی مراد یہ تھی کہ عدت کے بعد جب تو اس عورت کے ساتھ رہے گا تو اس کی معاشرت بد سے عجائبات ملاحظہ کرے گا۔ الرَّجَبان: رجب و شعبان کے دو مہینے۔ المُرَجَّب (مفع): خوفناک، معظم۔

۲۔ رَجَبَ ـُ رَجْبًا هٗ بكلامٍ سیءٍ: پر برے کلام کی تہمت لگانا۔

۳۔ رَجَّبَ النخلةَ: کمزوری کی وجہ سے کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگانا، کھجور کے درخت کے اردگرد کانٹوں کی باڑھ لگانا۔ اسی سے ہے: اَنَا جُذَيْلُها المحكك و عُذَيْقُها المُرَجَّب: جُذَيْل جذل کی تصغیر بمعنی تنہ کھلک وہ لکڑی جس میں خارش زدہ اونٹ اپنے بدن کو کھجاتا ہے۔ عُذَيق عذق کی تصغیر بمعنی کھجور اور رجب جس میں پھل کے بوجھ کی وجہ سے ٹیک وغیرہ لگا دی جائے یہ اس وقت کہتے ہیں جب اس کی رائے یا عقل سے مصیبت دور ہو۔ الرُّجْبَة: کھجور کے درخت کی ٹیک۔

۴۔ الرُّجْبَة: شکار کرنے کا مچان۔ الرَّوَاجِب واحد رَاجِبَة (ع ا): انگلیوں کی جڑوں کے جوڑ۔ الاَرْجَاب: آنتیں۔

○ رَجَبَ ـُ و رَجِبَ ـَ رَجَبًا من/علی: سے ڈرنا، کا احترام کرنا۔ رَجَـب: رجب، قمری سال کا ساتواں مہینہ۔

رجح: ۱۔ رَجَحَ ـَ رُجْحاناً و رُجُوحاً المیزانُ: ترازو کا جھکنا۔ ۔ الرائُ: رائے کا غالب آنا۔ ۔۔۔ ہٗ: سے زیادہ بوجھل، بھاری بھرکم اور بردبار ہونا۔ ۔۔۔ ہٗ بیده: کو ہاتھ میں لے کر اس کے بوجھ کا اندازہ لگانا۔ ۔۔۔ رَجَاحَةً: حلیم و بردبار ہونا، بوجھل ہونا۔ رَجَّحَ، اَرْجَحَ ہٗ: کو جھکانا، بوجھل کرکے جھکانا۔ ۔۔۔ له: کو جھکتا ہوا دینا۔ راجَحَ ہٗ: سے جھکنے میں غالب ہونے کے لئے مقابلہ کرنا۔ تَرَجَّحَ الرائُ عنده: کے نزدیک رائے کا غالب ہونا۔ ۔ فی القولِ: قول میں مائل ہونا۔ الرُّجُح من الجفان: بھرے ہوئے بڑے پیالے۔ المُتَراجِحَة او المتباینة العددیة (ع ج): دو مختلف عددوں کا مجموعہ۔ ۔ ذات مجاهیل (ع ج): الجبراء کے دو عددوں کا مجموعہ، جب نامعلوم اعداد کو اس میں موافق عددوں سے بدل دیا جاتا ہے تو متراجحه صحیح عددوں والی ہو جاتی ہے۔ ان عددوں کو حلول یا جزور المتراجحه کہا جاتا ہے۔

۲۔ رَجَّحَ ہٗ: کو ہلانا جلانا، جھلانا، لٹکانا۔ عوام اسے: اَرْجَحَهُ کہتے ہیں۔ تَرَجَّحَ الشیءُ: ہلنا، جھولنا۔ عوام اسے تَأَرْجَحَ کہتے ہیں۔ ۔۔۔ ت الأُرْجُوحَةُ به: سے جھولے کا جھکنا۔ اِرْتَجَحَ فی الارجوحة: جھولے میں جھولنا۔ ۔ ت الابلُ: آہستہ دوڑنے میں اونٹوں کا ہلنا۔ الرُّجُح من الكتائب: لشکر جرار۔ الأُرْجُوحَة جمع اَرَاجِیح و الرُّجَاحَة و الرُّجَّاحَة و المَرْجُوحَة: جھولا۔ الأَرَاجِیح: آہستہ قدم دوڑنے میں اونٹوں کی جنبش یا بان۔

○ رَجَحَ ـُ رُجُوحاً و رُجْحاناً: جھکنا (ترازو کے پلڑے کا)، زیادہ وزنی ہونا، حاوی ہونا، بڑا ہونا، زیادہ اہم یا زیادہ با اثر ہونا، سب سے اہم، نمایاں یا فائق ہونا۔ ۔۔۔ ہ: سے بڑھ جانا، سے بازی لیجانا، پر سبقت لے جانا۔ ۔ ان: بہت اغلب ہونا کہ...... رجح عنده ان: اسے یہ انتہائی ممکن لگا کہ۔ ۔۔۔ ہ بیده: کو ہاتھ میں تولنا۔ رَجَّحَ ہ علی: کو سے زیادہ وزنی کرنا، کو سے زیادہ اہمیت دینا، کو سے زیادہ وقعت دینا۔ ۔۔۔ ہ: کو زیادہ بھاری یا بوجھل خیال کرنا۔ ۔۔۔ ہ علی: کو پر ترجیح دینا، کو سے زیادہ پسند کرنا، کے حق میں ہونا، بنسبت دوسری چیز کے، کے سے زیادہ حق میں ہونا۔ ۔۔۔ ہ: کو اغلب، غالب، قرین قیاس، ممکن، قابل قبول، حقیقت سے قریب یا واقعیت سے ملتا جلتا سمجھنا۔ ۔۔۔ ان: یہ خیال کرنا کہ وہ اغلب، قرین قیاس، ممکن، قابل قبول، یا حقیقت سے قریب ہے۔ تَرَجَّحَ: زیادہ بوجھل ہونا، زیادہ وزنی ہونا، مقدار میں زیادہ ہونا، مقدم یا اہم جزو ہونا، آگے پیچھے جھولنا، گھڑی کے لٹکن کی طرح ہلنا، ہلنا جلنا، پنڈولے کی طرح نیچے اوپر حرکت کرنا۔ اِرْتَجَحَ: آگے پیچھے جھولنا، گھڑی کے لٹکن کی طرح ہلنا، ہلنا جلنا، جھولا جھولی کھیلنا، ڈانواڈول کھڑا ہونا یا حرکت کرنا۔ رَجَـاحَة: برداشت، صبر، عفو و کرم، نرمی، اطمینان، سکون، دلجمعی۔ رُجْحَـان: برتری، فوقیت، تفوق،

بالادستی ___ علی: سے زیادتی، سے زیادہ بھاری ہونا، برابمیت، تفوق، تسلط۔اَرْجَح: وزن میں برتر، زیادہ وقیع، زیادہ مقبول، زیادہ قابل قبول، بہتر، زیادہ اغلب، زیادہ ممکن۔الأَرْجَح أن: زیادہ اغلب ہے کہ، غالبًا..... علی الأَرْجَح: غالبًا، بہت اغلب۔

أَرْجَحِيَة: زیادہ ہونا، زیادہ بھاری ہونا، وزنی ہونا، اہم ہونا، قوی تر ہونا، فوقیت، غلبہ، پھیلاؤ، اشاعت۔

أُرْجُوحَة جمع اَرَاجِيح: بچوں کا تختہ کا جھولا، پنڈولا، جھولا، پالنا، گہوارہ۔رَاجِح: وزن میں برتر، زیادہ وقیع، زیادہ حق دار، زیادہ قابل قبول، پسندیدہ، بہتر، اغلب، ممکن۔مَرْجُوحَة جمع مَرَاجِيح: جھولا، بچوں کا تختہ کا جھولا، پنڈولا۔مُرَجَّح: زیادہ وقیع، زیادہ اثر و اقتدار رکھنے والا، زیادہ اہم، زیادہ وزنی، قوی تر، بالاتر، غالب، اغلب، قرین قیاس، ممکن، قابل قبول، حقیقت سے قریب، بہت ممکن، غالبًا، پسندیدہ، سہانا، بظاہر موزوں۔

رجد: رَجَدَ ـُ رِجَادًا: غلہ کی بالیوں کو کھلیان لے جانا۔ صفت رَجَّاد۔ رُجِدَ رَجْدًا و رُجِّدَ و أُرْجِدَ: کانپنا۔

○ رَجْرَجَ و تَرَجْرَجَ: کانپنا، آہستہ ہلنا، پر ہلکی کپکپی طاری ہونا، ہلنا جلنا، جھولنا۔رَجْرَاج: ہیجان زدہ، بے چین، مضطرب، کانپتا ہوا، گھبرایا ہوا، کپکپاتا ہوا، ہلتا ہوا، جھولتا ہوا۔الرَّجْرَاج: سمندر۔

رجز: ا۔رَجَزَ ـُ رَجْزًا: رجز پڑھنا۔ صفت رَاجِز و رَجَّاز و رَجَّازَة۔ ___ بہ: کے سامنے رجز پڑھنا۔ رَجَّزَهُ: کے سامنے رجز پڑھنا۔رَاجَزَ صاحبَهُ: سے رجز پڑھنے میں مقابلہ کرنا۔تَرَجَّزَ: رجز پڑھنا۔ ـ الرعدُ: گرج کی آواز مسلسل سنائی دینا۔ السحابُ: بادل کا پانی کی زیادتی سے دھیرے دھیرے حرکت کرنا۔اِرْتَجَزَ: رجز پڑھنا۔تَرَاجَزَ القومُ: ایک دوسرے کے مقابلہ میں رجز کے اشعار کہنا۔ بفلان: کے بارے میں رجز نظم کرنا، کہنا ___ الرَّجَزَ فی القتال: لڑائی میں رجز پڑھنا ___ الرعدُ: گرج کی آواز مسلسل سنائی دینا۔الرَّجَز: شعر کے بحروں میں سے ایک بحر جس کا وزن مستفعلن سات بار ہے، ایک بیماری جس میں اونٹوں کے سرین کانپتے ہیں۔ الأَرْجَز: سرین کانپنے کی بیماری والا۔الرِّجَازَة: وہ برتن یا کپڑا جس میں پتھر وغیرہ بھر کر بوجھ کو برابر کرنے کے لئے ایک طرف لٹکا دیتے ہیں، عورتوں کی سواری کے لئے اونٹ کی پالکی، وہ چیز جس سے ہودج سجایا جاتا ہے۔الأُرْجُوزَة جمع اَرَاجِيز: بحر رجز کا قصیدہ۔

۲۔الرُّجْز: گندگی، دکھ، بتوں کی پرستش۔الرِّجز: گندگی، گناہ۔ نیز بمعنی الرُّجْز۔

○ اِرْتَجَزَ: بحر رجز میں اشعار کہنا، لکھنا یا اچھے انداز سے پڑھنا، (سمندر کا) گرجنا، طوفانی ہونا، طوفان خیز ہونا، سمندر میں موجیں اٹھنا، سمندر کا متلاطم ہونا۔رَجَز: شعروں کے ایک بحر کا نام۔رَجَّاز: بحر رجز کے اشعار، چھوٹا گیت۔ اُرْجُوزَة جمع اَرَاجِيز: بحر رجز کی نظم۔

○ اَرَجُوز: بچوں کے لئے پتلیوں کے مزاحیہ تماشا میں ایک کردار جس کا نام Punch ہے جو اپنی بیوی جوڈی سے لڑائی کرتا ہے اس کھیل کا نام Punch and Judy show ہے۔

رجس: ا۔رَجَسَ ـُ رَجْسًا البعیرُ: اونٹ کا آواز کرنا۔ ـ ت السماءُ: بادل کا گرجنا۔تَرَجَّسَ ت السماء: بادل کا گرجنا ___ البناءُ: عمارت کے ہلنے سے آواز سنائی دینا۔المِرْجَس: خفیف حرکت۔المَرْجَاس: سمندر۔ کہا جاتا ہے بعیرٌ او سحابٌ رَجَّاسٌ: تیز آواز والا اونٹ یا بادل۔بعیرٌ رَجُوسٌ و مِرْجَسٌ: تیز آواز والا اونٹ۔

۲۔رَجَسَ ـُ رَجْسًا فلانًا عن الامر: کو کسی کام سے روکنا۔

۳۔رَجَسَ ـُ رَجْسًا و ارْجَسَ: آلہ سے پانی کی گہرائی ناپنا۔المِرْجَاس: پتھر وغیرہ جو رسی سے باندھ کر پانی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ پانی کی گہرائی کا پتہ چلے۔ پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ۔

۴۔رَجِسَ ـَ و رَجُسَ ـُ رَجَاسَةً: قبیح کام کرنا۔ صفت رَجِس۔ الرِّجْس: قبیح کام، قبیح کام پر سزا، شیطانی وسوسہ ___ و الرَّجَس و الرِّجس: گندگی، پلیدگی۔

○ رَجِسَ ـَ رَجَسًا و رَجُسَ ـُ رَجَاسَةً: گندہ ہونا، غلیظ ہونا، کوئی شرمناک کام کرنا، کوئی گندہ یا شرمناک رسوائی کا موجب کام کرنا۔رِجْس جمع اَرْجَاس: گندگی، غلاظت، گندی چیز یا کام، ظلم، بیدردی، سفاکی، بدذاتی۔رَجَس جمع اَرْجَاس: گندگی، غلاظت۔رَجِس: گندا، غلیظ۔رَجَاسَة: گندگی، غلاظت، خستگی، زبوں حالی۔رَجَّاس: گرجنے والا، متلاطم (سمندر)، گرجدار، کڑک دار۔

رجع: ا۔رَجَعَ ـِ رُجُوعًا و مَرْجِعًا و مَرْجِعَةً و رُجْعَى و رُجْعَانًا: جانا، لوٹنا ___ الشيءَ عنه او الیہ: کو سے ہٹانا، کو کی طرف لوٹانا۔ کہا جاتا ہے: رَجَعَ عَوْدُهُ علی بَدْئِهِ: وہ جس راستہ سے آیا تھا اسی پر واپس لوٹ گیا ___ رُجُوعًا و رِجَاعًا الطیرُ: پرندوں کا گرم خطوں سے گذر کر سرد مقامات میں پہنچنا۔رَجَّعَ فی صوتہ: حلق میں آواز گھمانا ___ و تَرَجَّعَ فی المصیبة: مصیبت میں انا للّٰہ و انا الیہ راجعون کہنا ___ ت الدابةُ: جانور کا قدم رکھنا۔رَاجَعَهُ فی الامر: کسی معاملہ میں کسی شخص کی طرف رجوع کرنا ___ هُ الکلامَ: سے گفتگو دہرانا۔ ___ الرجلُ: اپنی پہلی نیک یا بدعادت کی طرف لوٹنا۔ اَرْجَعَهُ: کو رد کرنا، پھیرنا ___ الرجلُ فی المصیبة: مصیبت میں انا للّٰہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ ت الدابةُ: جانور کا لید کرنا، گوبر کرنا۔ ت الناقةُ: اونٹنی کا لاغر ہونا، لاغری کے بعد فربہ ہونا۔ تَرَجَّعَ فی صدری کذا: میرے سینے میں ایسی گونج ہوئی۔تَرَاجَعَ القومُ: لوگوں کا اپنی اپنی جگہوں پر واپس آنا ___ القومُ الکلامَ بینهم: قوم کا آپس کی گفتگو میں الٹ پھیر کرنا۔اِرْتَجَعَ اِلَیَّ الشيءَ: اس نے وہ چیز مجھے واپس کردی ___ هُ: کو واپس کرنا ___ ت المرأةُ جلبابها: عورت کا اپنی چادر کو اپنے چہرہ پر دوبارہ ڈال لینا ___ علی الغریم: قرضدار سے مطالبہ کرنا۔اِسْتَرْجَعَ منه الشيءَ: سے چیز کی واپسی چاہنا، سے دی ہوئی چیز واپس لینا ___ فی المصیبة: مصیبت میں انا للّٰہ و انا الیہ راجعون کہنا ___ الحمامُ فی غنائہ: کبوتری کا گنگنا۔الرَّجْع جمع رِجَاع و رُجْعَان و رِجْعَان: خط کا جواب، بارش کے بعد بارش، موسم بہار کی سبزی، گوبر، تالاب ___ من الارض: زمین کا وہ حصہ جس میں سیلاب دور تک پھیل گیا ہو۔رَجْعُ الصدی: آواز بازگشت۔الرَّاجِع جمع رَوَاجِع: شوہر کے مرنے پر اپنے میکے میں جانے والی عورت۔الرُّجْعَة و الرُّجْعَى و الرُّجْعَان و الرَّجُوعَة: خط کا جواب۔الرَّجْعَة: واپسی۔الرِّجْعَة: واپسی کی قسم، اونٹوں کے ساز و سامان جو منڈی سے لوٹے ہوں، جمع ___ المَرْجِع: واپسی کی جگہ (ک): دوسرے جسم سے آکسیجن لینے والا جسم اور بعض شرائط پائی جانے پر اس آکسیجن سے متحد ہونا۔الرَّجِيع من الکلام جمع رُجُع: واپس کیا ہوا کلام، موسم بہار کی سبزی، اونٹ کی جگالی، گوبر، لید، پسینہ، ہر واپس کی ہوئی شے، تالاب، دوبارہ گرم کیا ہوا ٹھنڈا کھانا۔بعیرٌ رَجِیعٌ: سفر سے تھکا ماندہ اونٹ۔دابةٌ رجیعُ اسفار: چوپایہ جو بار بار سفر سے واپس آیا ہو۔ناقةٌ رَجِیعَة جمع رَجَائِع: سفر سے تھکی ہوئی اونٹنی۔المَرْجُوع

والمَرْجُوعَة جمع مَرَاجِيع: خط کا جواب، گودے کا نشان جو بار بار تازہ کیا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے: لیس لهذا البیع مرجوع: اس بیع میں واپسی نہیں ہوگی۔ المُرَاجِع من النساء: وہ عورت جو خاوند کے مرنے پر اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی ہو۔

۲۔ رَجَعَ ۔ رَجْعًا و مَرْجِعًا و مَرْجَعًا الکلامُ فیه: کلام کا کسی کو فائدہ پہنچانا ــــ العَلَفُ فی الدابة: چارہ کا جانور میں فائدہ دکھانا، پر خوشگوار اثر ڈالنا۔ اَرْجَعَ اللّٰہُ بیعتَه: اللہ تعالیٰ کا کسی کی سوداگری کو فائدہ مند بنانا۔ تَرَجَّعَ الناقةَ: اونٹنی کو دوسری اونٹنی کی قیمت سے خریدنا۔ اِرْتَجَعَ الناقة: اونٹنی کو دوسری اونٹنی کی قیمت سے خریدنا۔ کہا جاتا ہے باع خیلَهُ فارتجع منها رِجْعَةً صالحة: اس نے اپنے گھوڑے بیچے اور ان کی قیمت کو منافع کے کاموں میں لگایا۔ الرَّجْع (مص) جمع رِجَاع و رُجْعان و رِجْعان نفع۔ کہا جاتا ہے ماهو الا سَجْعٌ لیس فیه رَجْعٌ یہ محض تجع ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

۳۔ الرَّجْع من الکتف: مونڈھے کا نچلا حصہ۔ کہا جاتا ہے کواہ عند رجع کتفه: اس نے اس کے کندھے کے نچلے حصہ کے پاس اُسے داغا۔ الرَّجِیع جمع رُجُع: بوسیدہ کپڑا۔ المَرْجِع: کندھے کا نچلا حصہ۔

○ رَجَعَ ۔ رُجُوعًا: واپس آنا، دوبارہ آنا، لوٹنا، پھر ہونا، بار بار ہونا ــــ اِلی: سے رجوع کرنا، کے پاس لوٹنا، کچھ دوبارہ شروع کرنا، پھر شروع کرنا، کا سہارا لینا، پر اکتفا کرنا، کی طرف واپس آنا، کی طرف رجوع کرنا، کو کتاب میں دیکھنا، کے معنے (لغات) میں دیکھنا، (کتاب) سے رجوع کرنا، کو (کتاب) میں دیکھنا۔ اِلی اَن: اس حقیقت سے نسبت پذیر ہونا کہ.... ــــ اِلی: سے مشتق ہونا، سے نکلنا، کا منبع ہونا، کی اصل ہونا۔ رجع به اِلی: کو کچھ بتانا، پر انحصار کرنا، کی وجہ یا سبب سے ہونا، کے باعث ہونا، کا (حق) ہونا ــ ل: کے دائرہ اختیار میں داخل ہونا یا آنا ــ عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا ــــ عن/الی: اپنے قول سے ہٹنا، (فیصلہ) منسوخ کرنا ــــ علی: کا مخالف ہو جانا۔ رجع به علی فلان: سے کی واپسی کا دعویٰ کرنا ــ ب علی: سے کا مطالبہ کرنا، کا دعویٰ کرنا ــ ب: کا لازمی (نتیجہ) ہونا، کا نتیجہ ہونا ــــ فی: پر اچھا اثر ڈالنا، کے ساتھ کامیاب ہونا۔ رَجَعَ علی عَقِبِه جمع رجعوا علی اعقابهم: جس راستے آئے اسی پر واپس چلا جانا۔ رجع الی الصحة: صحت یاب ہونا۔ رجع اِلی صَوَابِه: کے حواس ٹھکانے لگنا۔ رجع الی نفسه: اپنا جائزہ لینا۔ یرجع ذلك اِلی اَن: یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ۔ یرجع السببُ اِلی: وجہ میں ملنا۔ رجعت به الذاکرة اِلی: اس نے یاد کیا، اسے یاد آیا۔ رجع فی کلامِه: اپنے قول سے پھر جانا۔ رَجَّعَ: واپس لانا، لوٹانا، واپس کرنا، واپس بھیجنا ــــ ہ عن: کو سے دور کرنا ــــ: مرتعش سر میں گانا یا گنگنانا ــ ہ: کو دہرانا، کی گونج پیدا کرنا۔ رجع صداہ: کی گونج لوٹانا، کو دہرانا۔ رَاجَعَ ہ/ہ: کے پاس واپس آنا ــ ہ: کی طرف واپس آنا، کا دوبارہ مطالعہ کرنا، کو دہرانا، کو بار بار کرنا، بار بار دہرانا، کے پاس واپس لوٹنا، اطلاع کے لئے سے درخواست کرنا، کسی کتاب سے رجوع کرنا، کو (کتاب) میں دیکھنا ــ ہ فی: سے کسی معاملہ میں رجوع کرنا، (مشورہ وغیرہ کے لئے)۔ ــ ہ: سے مشورہ کرنا ــ ہ/ ہ: کا ذکر کرنا، کی طرف اشارہ کرنا، سے متعلق ہونا ــــ ہ: کی پڑتال کرنا، تصدیق کرنا، کا ناقدانہ جائزہ لینا ــ ہ: (حساب کتاب) کی پڑتال کرنا، آڈٹ کرنا۔ راجعه عقلُهُ: کے حواس ٹھکانے لگنا۔ راجَعَ نفسَهُ: مصمم ارادہ کرنے کی کوشش کرنا، پورے معاملہ پر دوبارہ غور کرنا، معاملہ پر نظر ثانی کرنا، معاملہ کو پھر سے سوچنا۔ یُرَاجَعُ: دیکھئے۔ اَرْجَعَ: لوٹانا، واپس کرنا ــ ہ اِلی: کو کی طرف موڑنا ــ ہ: کو واپسی پر مجبور کرنا ــــ ہ اِلی: کو سے منسوب کرنا۔ تَرَجَّعَ: لوٹنا، دوبارہ آنا، گونجنا، واپس مرتعش ہونا۔ تَرَاجَعَ: ایک دوسرے کی طرف مڑنا، پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، لوٹنا، ہٹنا، کم ہو جانا، بگڑنا، خراب ہونا، معیار سے گرنا ــــ عن: سے بتدریج انحراف کرنا، تجاوز کرنا۔ ــ: پیچھے رہ جانا، اپنا ذہن تبدیل کرنا۔ استرجع ہ: کی واپسی کا مطالبہ کرنا، کی واپسی کی درخواست کرنا، کو واپس لینا، کو دوبارہ پانا، کو لے لینا ــ وعدا: وعدہ واپس لینا ــ ہ: (فیصلہ وغیرہ) منسوخ کرنا، مصیبت میں انا للّٰہ و انا الیه راجعون کہنا۔ اِسْتَرْجَعَهُ اِلی خَاطِرِہ: کو یاد کرنا۔ رَجْع: واپس آنا، واپسی۔ رجعُ الصوت و رجع الصَّدَی: گونج، صدائے بازگشت۔ لِرَجع البصر: پلک جھپکتے میں، ابھی۔ رَجْعِیّ: رجعت پسند، پچھلے زمانہ سے نافذ ہونے والا، ماضی میں عمل کرنے والا، قابل تردید، قابل منسوخی۔ بِاَثَرٍ رَجْعِیّ: ماضی سے نفاذ کی قوت کے ساتھ۔ رَجْعِیَّة: رجعت پسندی۔ رَجْعَة: واپسی، بار بار ہونا، اعادہ، مراجعت، تنسیخ، استرداد، منسوخی، رسید، فرد حساب۔ رَجْعَة و رِجْعَة: طلاق کے بعد بیوی کی طرف واپسی، اپنی مطلقہ سے دوبارہ نکاح۔ رُجْعَی: قدامت پسندی، رجعت پسندی۔ رُجُوع: واپسی، مراجعت بازیابی، اصلاح، درستی، منسوخی، باز رسی، بحالی، بازدہی ــ اِلی: کی طرف واپسی، سے رجوع، پچھلی (چھوٹی) نوکری پر واپس آنا، کا قابل سراغ ہونا، جو پتہ لگائے جانے کے قابل ہو ــ عن: کا استرداد، کی تنسیخ، سے پھرنا، کو واپس لینا، سے استعفیٰ، دستبرداری۔ بِمَرْجُوعِ البَرِید: بواپسی ڈاک۔ رَجِیع: بول و براز، پاخانہ پیشاب، فضلہ۔ مَرْجِع جمع مَرَاجِع: واپسی، سند، حاکم، حکام، ارباب اختیار، عہدے دار جس سے رجوع یا اپیل کی جائے، جائے پناہ، کمین گاہ، مرجع، رجوع، حاکم مجاز، صاحب اختیار، ذمہ دار ایجنسی، منبع، سرچشمہ، ماخذ، مصدر، بنیاد (خصوصاً سائنسی)، معتبر یا مستند حوالے کا کام، حوالہ، منبع جس کی طرف کوئی چیز واپس ہو یا جس کی طرف منسوب کی جا سکے، نقطہ آغاز، اصل، رجوع۔ مرجعُ النظر: دائرہ اختیار، سماعت کے اختیار رکھنے والا۔ المرجع الیه: جس سے رجوع کیا جائے۔ المرجع فی ذلك اِلیَّ: اس ذریعے سے میں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کان مرجع هذا الشیء اِلی: یہ کی وجہ سے تھا، سے منسوب کیا جا سکتا تھا۔ الیهم مرجع الفضل: خوبی ان کی وجہ سے ہے۔ مَرْجَعِیة: سند۔ مُرَاجَعَة: بار بار دہرانا، دہرانا، معائنہ، مطالعہ، جائزہ، بغور مشاہدہ، امتحان، پڑتال، تفتیش، حوالہ کے کام کی طرف رجوع کرنا، درخواست، مشورہ یا ہدایت کی درخواست، کسی شخص سے مشورہ، تصدیق، توثیق، جانچ پڑتال، دوبارہ امتحان، آڈٹ۔ (مراجعة الحساب: آڈٹ) نظر ثانی (مسودہ کی)، تصحیح۔ اِرْجَاع: واپسی، بحالی، رقم کی واپسی، بازادائی ــــ اِلی: سے نسبت، انتساب، کی حالت میں لانا۔ تَرَاجُع: پسپائی، ذہن کی تبدیلی، قدامت پسندی، رجعت پسندی۔ اِرْتِجَاع: قدیم شکل یا نظام کی طرف واپسی، قدامت پسندی، رجعت پسندی۔ اِرْتِجَاعِی: رجعت پسند، قدامت پسند۔ اِسْتِرْجَاع: بازیابی، بازیافت، درستی، اصلاح، تلافی، منسوخی، دست برداری، استرداد، تنسیخ۔ رَاجِع: واپس ہونے والا ــ اِلی: کی وجہ سے، سے منسوب، واجب طور پہ کسی شخص کا ــــ ل: کے تابع، پر منحصر۔ الحُمَّی الرَّاجِعة: عود کر آنے والا بخار۔ مُرَاجِع: پڑتال کنندہ، تصدیق کنندہ،

ممتحن، نظر ثانی کرنے والا۔ المُراجِعُ الحِسابات:
آڈیٹر، کمپٹرولر، ناظر حسابات۔
رجف: رَجَفَ ـُ رَجْفًا و رَجَفَانًا و رُجُوفًا و رَجِيفًا
ہٗ: کو زور سے حرکت دینا۔ الرجلُ: سخت بے چین
ہونا، کسی خوف کی بنا پر بے کل ہونا۔۔۔۔ تِ الارضُ:
زمین پر زلزلہ آنا۔ القومُ: قوم کا جنگ کے لئے تیار
ہونا۔ الرعدُ: رعد کا گڑگڑانا۔۔۔۔ ت الاسنانُ:
دانتوں کا گرنا۔ اَرْجَفَ: لوگوں کو بھڑکانے کے لئے
بری خبریں اڑانا۔ القومُ بالشیءِ و فِیهِ: میں
گھسنا۔۔۔۔ ت الریحُ الشجرَ: ہوا کا درختوں کو
ہلانا۔ و اُرْجِفَت الارضُ: زمین میں زلزلہ آنا،
بھونچال آنا۔ تَرَجَّفَ و اِرْتَجَفَ: سخت کانپنا و بے
چین ہونا۔ اِسْتَرْجَفَ رأسَهٗ: سر کو ہلانا۔ کہا جاتا ہے:
خرجوا یسترجفون الارضَ نَجدةً: وہ زمین
میں ظلم اور دنگا فساد برپا کرتے ہوئے نکلے۔ الرَّجْفَةُ:
اسم مرة، زلزلہ، بھونچال۔ المُراجِف (طب): جاڑے
سے آنے والا بخار۔ الراجِفَةُ: قیامت کے دن صور
کی پہلی پھونک۔ الرَّجَّاف: بہت کانپنے اور بے چین
ہونے والا، سمندر، قیامت اور حشر کا دن۔ المُتَرَجَّاف:
بے چینی۔ المِرْجَفَة: زلزلہ پیما، زلزلہ نگار (Seismograph)۔ الاَرَاجِيف: بری بناوٹی جھوٹی
خبریں۔ کہتے ہیں اِذا وقعت المخاويف، کثرت
الاراجیفُ: خوف کے وقت بری اور جھوٹی خبریں
زیادہ اڑتی ہیں۔

○ رَجَفَ ـُ رَجْفًا و رَجَفَانًا: ہلنا، کانپنا، کپکپانا، کپکپی
لگنا، لرزہ براندام ہونا، رونگٹے کھڑے ہونا۔۔۔۔ ہٗ: کو
بے چین کرنا، مضطرب کرنا، جھنجھوڑ دینا، متزلزل کرنا،
کپکپا دینا۔ اَرْجَفَ ہٗ: کو لرزہ براندام کرنا، لرزانا۔۔۔۔
ہٗ: کو زور زور سے ہلانا، جھنجھوڑنا، ہلانا جلانا۔۔۔۔ ہ:
جھوٹی باتیں اور خبریں پھیلانا۔ اَرْجَفَ بافتراءٍ اتٍ:
تہمتیں پھیلانا۔ اِرْتَجَفَ: تھرانا، کانپنا، لرزنا، ہچکولے
کھانا، جھٹکے کھانا، ہلنا۔ رَجْفَة: لرزہ، کپکپی، تھرتھراہٹ،
زلزلہ، خوف، گھبراہٹ، ہیجان، فالج کا رعشہ۔
رَجَّاف: کانپنے والا، لرزنے والا، ہچکولے کھانے والا،
جھٹکے کھانے والا، متحرک، ہلنے والا، زور زور سے ہلایا
ہوا، جھنجھوڑا ہوا۔ اُرْجُوفَة جمع اَرَاجِيف: جھوٹی
افواہ، جھوٹی اور پریشان کن بات۔

رجل: ۱ رَجَلَ ـُ رَجْلًا الفصيلَ: اونٹ کے بچہ کو ماں
کا دودھ پینے کے لئے آزاد چھوڑ دینا۔۔۔۔ الشاةَ:
بکری کی ٹانگیں باندھنا۔۔۔۔ ہٗ: کی ٹانگ پر مارنا۔
رَجِلَ ـَ رَجَلًا: پیدل چلنا، ٹانگ میں کوئی تکلیف
لاحق ہونا۔ الفصیلُ: اونٹ کے بچہ کا ماں کا دودھ
پینے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جانا۔ ت الدابَّةُ: جانور
کا ایک ٹانگ میں سفیدی والا ہونا۔ رَجَّلَ ہٗ: کو
پیدل چلانا۔۔۔۔ الفصیلَ: اونٹ کے بچہ کو ماں کا
دودھ پینے کے لئے آزاد چھوڑ دینا۔ تَرَجَّلَ: سواری
سے اتر کر پیدل چلنا۔ البئرَ و فی البئرِ: بغیر رسی
وغیرہ لٹکائے ہوئے کنویں میں اترنا۔۔۔۔ الزَّنْدَ:
چقماق کی اوپر کی لکڑی کو پاؤں کے نیچے رکھنا۔
اِرْتَجَلَ الشاةَ: بکری کی ٹانگیں باندھنا۔۔۔۔ ہٗ: کو
پاؤں سے پکڑنا۔ الزَّنْدَ: چقماق کی اوپر کی لکڑی کو
پاؤں کے نیچے رکھنا۔۔۔۔ الرجلُ: پیدل چلنا۔۔۔۔
الفرسُ: گھوڑے کا باری باری تیز اور نرم چال سے
چلنا۔ الرَّجِل: پیدل چلنے والا۔ الرِّجْل جمع
اَرْجُل: قدم (کہا جاتا ہے ھو یُقَدِّمُ رجلًا و
یُؤَخِّرُ اُخریٰ: کسی معاملہ میں متردد ہونا، پس و پیش
کرنا)، پائجامہ، آدمی کا پاخانہ، پیش رفت۔ رِجْلُ
البحرِ: کھاڑی۔ رِجْلا السهمِ: تیر کے ہر دو
طرف۔ کثیرةُ الاَرْجُل (ح): جوڑ دار جانوروں کی
ایک قسم جیسے ہزار پا (کنکھجورا) بعض زہریلے ہوتے
ہیں۔ الرَّجُل جمع رِجَال و رَجْلَة و رَجَلَة و
اَرَاجِل و رِجَالات: پیدل چلنے والا۔ الرَّاجِل:
پیدل چلنے والا۔ الرَّاجِل (فا) جمع رَجْل و
رَجَّالَة و رُجَّال و رِجَال و رُجَالَی و رَجَالَی
و الرجلان: پیدل چلنے والا۔ کہا جاتا ہے جاء ت
الخیالةُ و الرَّجَّالَةُ: سوار اور پیدل آئے۔ اَغار
علیهم بِخَیْلِهٖ و رَجْلِهٖ: اس نے ان پر اپنے
سواروں اور پیادوں سے لوٹ ڈالی۔ رَجُلٌ رَاجِلٌ
پیدل چلنے والا امرد۔ الرُّجْلَة: چلنے کی طاقت، جانور
کے ایک پاؤں کی سفیدی۔ الرِّجْلَة جمع رِجَل
(ن): خرفہ کا ساگ، خرفہ کے ساگ کے اگنے کی جگہ۔
الرَّجِیل جمع اَرْجِلَة و اَرْجِل و اَرَاجِیل:
پیدل چلنے والا۔۔۔۔ جمع رَجْلی و رُجَالی و
رَجَالی: زیادہ چلنے پر قدرت رکھنے والا۔ امکان
رَجِیل: وہ جگہ جس کے دونوں طرف دور ہوں۔
فرسٌ رجیلٌ: رام، سدھایا ہوا گھوڑا جس کو پسینہ نہ
آئے۔ الرَّجْلان جمع رُجَالی و رَجَالی و
رَجْلی مونث رَجْلی جمع رِجَال و رَجَالی:
پیدل چلنے والا۔ الاَرْجَل من الدواب: ایک ٹانگ
میں سفیدی رکھنے والا جانور۔ رَجُلٌ اَرْجَل مونث
رَجْلاء جمع رُجْل: بڑے پاؤں والا آدمی۔
التَّرْجِیل: جانور کی ایک ٹانگ میں سفیدی۔
الاَرَاجیل: شکاری لوگ۔ الرَّجْلِیُّون واحد
رَجْلِیّ: وہ آدمی جو ٹانگوں پر دوڑتے تو گھوڑے ان
تک نہ پہنچ سکتے تھے، یہ آدمی سُلَیک بن سُلَیکة
الغطفانیّ والمنتشر بن وھب الباھلیّ و اوفی
بن مطر المازنی تھے۔

۲ رَجِلَ ـَ رَجَلًا الشعرُ: بالوں کا کچھ گھنگریالے ہونا۔
رَجَّلَ الشعرَ: بالوں میں کنگھی کرنا۔ شعرٌ رَجْلٌ:
کم گھنگریالے بال۔ الرَّجَل من الشعر جمع
اَرْجَال و رَجَالی: کم گھنگریالے بال۔ الرَّجِل من
الشعرِ: کم گھنگریالے بال۔ المِرْجَل جمع
مَرَاجِل: کنگھی۔ المُرَجَّل من الشعرِ: کنگھی
کئے ہوئے بال۔

۳ رَجَّلَ ہٗ: کو مضبوط کرنا۔ تَرَجَّلَت المرأةُ: عورت کا
مرد کی طرح ہونا۔۔۔۔ ت الشمسُ: سورج کا اونچا
ہونا۔ اِرْتَجَلَ النهارُ: دن چڑھنا۔ الرَّجُل: مرد۔
الرَّجُل: بہت سونے والا آدمی۔ الرَّجُل جمع
رِجَال و رَجْلَة و رَجَلَة و اَرَاجِل و رِجَالات:
مرد۔ کہا جاتا ہے فلان رَجُلٌ فی الرجال: فلاں
شخص ان میں کامل مردانگی والا ہے۔ الرَّجُلَة:
عورت۔ المُرْجُلة: مردانگی۔ رَجُلٌ رَجِیل: سخت
مضبوط آدمی۔ الرُّجُولة و الرُّجُولِیَّة و الرَّجُولِیَّة و
الرُّجْلِیَّة: مردانگی، مردمی۔ الاَرْجَل: سخت تر۔ کہا
جاتا ہے ھو اَرْجَلُھم: وہ مردانگی میں ان میں سے
سب سے زیادہ کامل ہے۔ المُرَجَّل من النسیج
وغیرہ: کپڑا وغیرہ جس پر آدمیوں کی تصویریں منقش
ہوں۔

۴ اَرْجَلَ ہٗ: کو مہلت دینا۔

۵ اِرْتَجَلَ: دیگچی میں پکانا۔ المِرْجَل جمع مَرَاجِل:
دیگچی، بوائلر (انجن وغیرہ کا)۔

۶ اِرْتَجَلَ الکلامَ: فی البدیہہ کہنا۔ کہا جاتا ہے اِرْتَجَلَ
الشعرَ: اس نے فی البدیہہ شعر کہے۔ برایہ: اپنی
رائے میں منفرد و تنہا ہونا۔ کہا جاتا ہے اِلْزَمْ رَجْلَكَ:
اپنی شان کو لازم پکڑ۔ کلامٌ رَجِیلٌ: فی البدیہہ کلام۔

۷ الرِّجْل جمع اَرْجَال: کسی چیز کا حصہ، ٹڈی دل (کہا
جاتا ہے جاء ت رِجْلُ دِفَاعٍ: بہت بڑا لشکر آیا)
عہد، زمانہ۔ (کہتے ہیں کان ذلك فی رِجْلِ فلانٍ:
یہ اس کے عہد اور زندگی میں تھا)۔ خالی سفید یا سادہ
کاغذ، فقیری، محتاجی، خوف (آپ کہتے ہیں انا من
امری علی رِجْلٍ: میں اپنے امر کے فوت ہونے
سے خائف ہوں) رِجْلُ الغراب و رِجْلُ الجراد:
دو قسم کی نباتات۔ رِجْلُ الذِّئب (ن): ایک قسم کی

نباتات۔رِجلُ الجبّار ورِجلُ الجوزاء و رجلُ قنطورس (فلک): ستاروں کے نام۔المُرَجَّل: شراب سے بھری ہوئی مشک۔الـراجیل (ن): اجوائن خراسانی۔

○ رَحِلَ ۔رَجَلاً: پیدل چلنا، چلنا۔رَجَّلَ ہ: بالوں میں کنگھی کرنا، بالوں کو لٹکانا، کھلا چھوڑنا۔تَرَجَّلَ: پیدل چلنا، چلنا۔ـــ من /عن: سے نیچے اترنا، اترنا۔ـــ: مردوں کے سے اخلاق وعادات اختیار کرنا، مرد جیسا رویہ اختیار کرنا۔تَرَجَّلَ فی طریقہ: تمام راستہ چلنا۔اِرْتَجَلَ ہ: فی البدیہ تقریر کرنا، شعر کہنا، برجستہ تقریر کرنا۔اِسْتَرْجَلَ: مرد بن جانا، مرد کی عمر کو پہنچنا، بڑا ہو جانا، مرد کی طرح کام کرنا، مردانہ اخلاق و عادات یا خوبیاں ظاہر کرنا۔رِجْل (موٴنث) جمع اَرْجُل: پاؤں، ٹانگ۔رِجْل جمع اَرْجال: دل، جھنڈ (خصوصاً ٹڈیوں کا)، لوبیا، باقلہ، خرفہ۔رَجِل: پیدل، پیادہ، پاپیادہ، پیادہ رو، پیدل چلنے والا، چلنے والا۔رَجُل جمع رِجال: مرد۔جمع رِجالات: بڑے اور اہم لوگ، سرکردہ شخصیات، ممتاز مرد۔رِجالُ الدَّولة: مدبرین، سیاستدان، کاروبار حکومت کے ماہرین، اصحاب تدبیر۔رِجالُ السِّنّد: جاسوس، مخبر، خبر دینے والے، خبر رساں، سرچشمہ ہائے معلومات۔رِجالِیّ: مردانہ، مردوں کا۔رَجُولَة: مردانگی، جوانمردی، جنس مذکر، مردی، قوت باہ، رجولیت، مردی، آدمیت، بہادری۔رَجُولِیَّة: بمعنی رَجُولَة۔مِرْجَل جمع مَراجِل: ہانڈی، دیگچی، پتیلا، کڑھاؤ، دیگ، کارخانوں یا انجنوں کا بائلر۔اِرْتِجال: وہیں بنا دینا، برجستگی، برمحل کلام، برجستہ نظم، بروقت شعر کہنا، فی البدیہ موزوں کرنا، برجستہ کہنا، برمحل، برجستہ، فی البدیہ یا بلا کسی تیاری کے تقریر۔اِرْتِجالِی: برمحل، فی البدیہ، برجستہ، بروقت، عین وقت پر کیا ہوا، بلا کسی تیاری کے، بے ساختہ، عین وقت پر تیار کیا ہوا۔راجِل جمع رَجْل و رَجّالَة و رُجّالِ و رُجْلان: پیادہ رو، چلنے والا، پاپیادہ، پیدل، پیدل چلنے والا، پیدل چلنے کا شوقین۔مُرْتَجَل: برجستہ، برمحل، فی البدیہ، عین وقت پر کیا ہوا، بلا کسی تیاری کے، بے ساختہ، عین وقت پر ترتیب دیا ہوا، بروقت۔

رجم: ا۔رَجَمَ ۔رَجْماً ہ: کو پتھروں سے مارنا، سنگسار کرنا۔کہا جاتا ہے جاءَ یَرْجُمُ: وہ دوڑتا ہوا آیا۔راجَمَ مُراجَمَةً ہ: ایک دوسرے کو پتھر مارنا۔ـــ عن قومہ: اپنی قوم کی حفاظت کرنا، اپنی قوم کا دفاع کرنا۔ـــ ہ فی الحرب او الکلام او العَدْوِ: سے لڑائی گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔تَراجَمُوا: ایک دوسرے پر پتھراؤ کرنا۔الرَّجْم (مص) جمع رُجُوم: جس سے رجم کیا جائے۔الرُّجُم مفرد رُجْمَہ: شہاب جو آسمان میں گرتے نظر آتے ہیں۔الرَّجِیم: رجم کیا ہوا۔المِرْجَم من الرجال: مضبوط و سخت آدمی۔فرسٌ مِرْجَمٌ: سخت دوڑنے والا گھوڑا۔المِرْجام: گویا۔ـــ من الابل: مضبوط اونٹ۔

۲۔رَجَمَ ۔رَجْماً القبرَ: قبر پر کتبہ نصب کرنا، نشان کا پتھر لگانا۔رَجَّمَ القبرَ: قبر پر کتبہ نصب کرنا، نشان کا پتھر لگانا۔اِرْتَجَمَ الشیءُ: تہ بتہ ہونا، ڈھیر لگنا۔الرَّجَم جمع رِجام: قبر، کنواں، تنور۔الرُّجُم مفرد رُجْمَہ: نشان یا پتھر جو قبر پر نصب کیا جاتا ہے۔الرُّجْمَة و الرَّجْمَة جمع رُجَم و رِجام: قبر پر نصب کیا جانے والا پتھر، قبر، بجو کا بھٹ۔الرُّجْمَة: پتھروں کی بڑی ڈھیری۔الرِّجام واحد رُجْمَة: کنویں کی من، پہاڑیاں۔الرِّجامان: کنویں کا دہانہ جس پر ڈول وغیرہ ڈالنے کے لئے چرخی نصب ہوتی ہے۔

۳۔رَجَمَ ۔رَجْماً ہ: پر لعنت کرنا، کو گالی دینا، دھتکارنا، چھوڑنا۔تَراجَمُوا بالکلام: ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرنا۔الرَّجِیم: ملعون۔الشیطان الرجیم: ملعون شیطان۔المَراجِم: نازیبا و قبیح باتیں۔کہا جاتا ہے تراموا بالمَراجِم: ایک دوسرے سے نازیبا گفتگو کرنا۔

۴۔رَجَمَ ۔رَجْماً الرجلُ: گمان سے بات کرنا۔رَجَّمَ: گمان سے بات کرنا۔کہا جاتا ہے رَجَّمَ بالغیب: بے جانے بوجھے بات کرنا۔الرَّجْم: ظنی بات۔کہا جاتا ہے رَجْماً بالغیب: انکل پچو۔صار فلانٌ رَجْماً: فلاں شخص ایسا بن گیا جس کی حقیقت سے واقفیت نہیں ہو سکتی۔الرِّجام واحد رُجْمَة: پتھر وغیرہ جوری میں باندھ کر گہرائی معلوم کرنے کے لئے پانی میں ڈالا جاتا ہے۔حدیثٌ مُرَجَّم: وہ بات جس کی حقیقت نہ کھلے۔

۵۔الرَّجْم جمع رُجُوم: دوست، ہم جلیس و ہمنشین۔

○ رَجَمَ ۔رَجْماً ہ: پر پتھر پھینکنا، لعنت کرنا، کو برا کہنا، نفرین کرنا، پر لعنت بھیجنا، کو گالی دینا، پر دشنام طرازی کرنا، کو گالیاں دینا۔رَجَمَ بالغیب: ایسی بات کرنا جس کے متعلق اسے کچھ پتہ نہ ہو، قیاس لگانا، انکل سے کہنا، اندازے سے کہنا، اندازہ لگانا، قیاس آرائی کرنا، مستقبل کی پیش گوئی یا پیشین گوئی کرنا۔رَجْم بالغیب: بمعنی: رَجَمَ بالغیب۔رَجْم: پتھراؤ، پتھر مارنا یا پھینکنا۔جمع رُجُوم: پھینک کر مارنے والا ہتھیار، انداختہ۔رَجْمٌ بالغیب: قیاس، اندازہ، انکل، پیشین گوئی۔رُجُوم: شہاب ثاقب، گرے ہوئے شہابی پتھر۔رُجْمَة جمع رُجَم و رِجام: قبر کا پتھر، کتبہ۔رَجِیم: پتھر مارا ہوا، لعنت کیا ہوا، مردود ٹھہرایا ہوا، بددعا دیا ہوا۔

رجن: ا۔رَجَنَ ۔رُجُوناً بالمکان: کسی جگہ رہنا، اقامت کرنا۔ـــ الحیوانُ: جانور کا گھروں سے مانوس و مالوف ہونا۔ـــ رَجْناً الدابةَ: جانور کو چارہ پر گھر میں روک کے رکھنا۔رَجِنَ ۔و رَجُنَ ۔رُجُوناً بالمکان: کسی گھر میں رہنا، قیام کرنا، اقامت کرنا۔ـــ الحیوانُ: گھروں سے مانوس ہونا (جانور کا)۔رَجَّنَ الدابةَ: جانور کو چارہ پر گھر میں روک رکھنا۔اَرْجَنَ الدابةَ: جانور کو چارے پر گھر میں روک رکھنا۔ـــ ت الناقةُ: اونٹنی کا گھر میں رہنا۔اِرْتَجَنَ بالمکان: کسی جگہ رہنا۔

۲۔رَجَنَ ۔رَجْناً فلاناً: سے شرم و حیا کرنا۔

۳۔اِرْتَجَنَ الزُّبْدُ: مکھن کا پکانے پر صاف نہ ہونا اور بگڑ جانا۔ـــ علی القوم امرُھم: قوم پر ان کے کام کا پیچیدہ اور گڑبڑ ہونا۔الـرَّجِنَة: جماعت۔المَرْجُونَة: نوکری۔کہا جاتا ہے ھم فی مَرْجُونَة: وہ اسی شش و پنج میں ہیں کہ ٹھہریں یا کوچ کر جائیں۔

۴۔الرَّجِین: زہر قاتل۔

رجہ: رَجَهَ ۔رَجْهًا: ہلنا۔ـــ بالشیء: کو ہاتھوں سے تھامنا۔اَرْجَهَ الامرَ: کام کو ملتوی کرنا۔

رجا: ا۔رَجا ۔رَجاءً و رَجْوًا و رَجاةً و مَرْجاةً و رَجاوَةً و رَجاوَةً: امید رکھنا۔ـــ الرجلَ: سے امید باندھنا۔ـــ الشیءَ: کی امید کرنا۔رَجّٰی و اِرْتَجٰی فلاناً: سے امید لگانا۔ـــ الشیءَ: کی امید کرنا۔تَرَجّٰی الشیءَ: کی امید کرنا۔عام لوگ کہتے ہیں: تَرَجّاہ: سے درخواست کرنا۔الرَّجاء: جھوٹا حمل۔الرَّجِیَّة: امید کی چیز۔کہا جاتا ہے لیس لی فی فلان رَجِیَّة: فلاں شخص میں میرے لئے ایسی کوئی چیز نہیں جس کی امید کروں۔التَّرَجّی: امید، توقع۔

۲۔رَجا ۔رَجاءً و رَجْوًا و رَجاةً و مَرْجاةً و رَجاوَةً و رَجاءَةً الشیءَ: سے ڈرنا، خوف کھانا۔اِرْتَجٰی الشیءَ: سے ڈرنا، خوف کھانا۔

۳۔رَجِیَ ۔رَجًا: کلام سے رکنا۔رُجِیَ علیہ: کا کلام بند ہونا۔

۴۔اَرْجَی الصیدَ: شکار کو کھو دینا، نہ پانا۔

٥-اَرْجَی الامرَ: کام کو ملتوی کرنا- الأُرْجِيَّة: ملتوی شدہ چیز-

٦-الرَجَا و الرَجَاء جمع اَرْجَاء: کنارا، طرف- رَجَوَا البِئرِ: کنویں کے دونوں کنارے-

○ رَجَا-ُ رَجَاءً و رَجَاةً و مَرْجَاةً: امید ہونا ــــ ہ: کی امید ہونا، کی امید کرنا، توقع کرنا، کی دعا کرنا ــــ ل ہ: کے لئے (کامیابی وغیرہ) کی دعا کرنا ــــ ہ من/ہ ان: کو سے مانگنا، سے کچھ کرنے کو کہنا ــــ ہ من: سے کی درخواست کرنا ــــ من ان: سے درخواست کرنا کہ وہ...... رجاہ فی الحاح: سے التجا کرنا، کی منت ساجت کرنا- ارجو عدم المؤاخذة: مجھے آپ کا عفو و کرم طلب کرنا چاہیے- تَرَجَّی ہ/ہ: کی امید ہونا، کی توقع کرنا، کی امید کرنا ــــ ہ: سے درخواست کرنا- اِرْتَجَی ہ/ہ: کی امید ہونا، کی توقع کرنا ــــ ہ/ہ: کیا امید کرنا ــــ ہ: سے ڈرنا، دہشت کھانا- رَجاً و رَجَاء جمع اَرْجَاء: کنارا، طرف، جانب، رخ، سمت، خطہ، دائرہ جمع اَرْجَاء: (زمین، ملک) کی فراخی، کشادگی، وسعتیں، وسیع علاقے، پورا گرد و نواح یا علاقہ- فی اَرْجَاءِ ہ: کے اندرون یا اندر کے آس پاس- فی اَرْجَاءِ الغرفة: تمام کمرہ میں- فی ارجاء البلاد: تمام ملک میں- تجاوبت ارجاءُ الرَدْهَة بالتصفیق: سارا آڈیٹوریم تالیوں سے گونج اٹھا- شاسِعُ الأَرْجَاء اور واسع الأَرْجَاء: وسیع حدود والا، وسیع الحجم- رَجَاء فی/ب: کی امید، توقع، اصرار والی درخواست، التجاء- علی رجاءِ: کی امید میں، کی امید رکھتے ہوئے- رجاء العلم: آپ کی اطلاع کے لئے (یادداشتوں وغیرہ پر)- راسُ الرجاء الصالح: Cape of Good Hope- ایک جگہ کا نام جو سطح سمندر سے بلند ہے- رَجَاة: امید، توقع- رَجِیَّة: امید، وہ چیز جس کی امید ہو- مَرْجَاة: امید- راجٍ: امید کرنے والا، پرامید- مَرْجُو: جس کی امید ہو، متوقع، درخواست کردہ- المرجو من فضلك أن: مجھے امید ہے کہ آپ مہربانی فرما کر...... کریں گے- المرجو مُرَاعَاة أن: براہ کرم توجہ فرمائیں کہ، دیکھیں کہ، اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ- رَجِیَ-َ: خاموش ہو جانا، خاموش رہنا- رُجِیَ علیہ: (ڈر یا حیا سے) خاموش ہونا، کی زبان کو تالا لگ جانا، آواز نکالنے کے ناقابل ہو جانا-

○ رِجِیم: (طبی طور پر مقرر کردہ) غذا، (پرہیزی) غذا (فرانسیسی لفظ)-

رحّ: ١- الرُحّ: بڑے پیالے- الرَحَح: کھر کی چوڑائی- الرَحَّة: کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا سانپ- الأَرَحّ مؤنث رَحَّاء جمع رُحّ: چپٹے کھروں والا-

٢- رَحْرَحَ: مقاصد کی تہ تک نہ پہنچنا- تَرَحْرَحَتِ الفرسُ: گھوڑے کا پیشاب کرنے کے لئے ٹانگوں کو چیرنا- الرَحْرَح و الرَحْرَاح: کشادہ، چوڑا- کہا جاتا ہے: عیشٌ رَحْرَحٌ و رَحْرَاحٌ: کشادہ و آسودہ زندگی- والرَحْرَحَان: کشادہ، چوڑا، کم گہرائی والا-

٣- رَحْرَحَ الشيءَ عن فلان: چیز کو کسی سے چھپانا- بالکلام: غیر واضح کلام کرنا-

رحب: رَحِبَ-َ رَحَبًا و رَحُبَ-ُ رُحْبًا و رَحَابَةً المكانُ: جگہ کا وسیع و فراخ ہونا- صفت: رَحْب و رَحِیب و رُحَاب- کہا جاتا ہے: رَحُبَکُمُ الامرُ: کوئی کام کر سکنا، کے قابل ہونا- رَحَّبَ المكانَ: جگہ کو کشادہ کرنا ــــ بہ و مَرْحَبَةً: کا اچھا استقبال کرنا، کو خوش آمدید کہنا- اَرْحَبَ المكانُ: جگہ کا کشادہ ہونا ــــ المكانَ: جگہ کو کشادہ کرنا- کہا جاتا ہے: اَرْحِبْ یا وَلَدُ: بیٹے الگ اور دور رہو- تَرَاحَبَ: وسیع ہونا، کشادہ ہونا- الرُحْب (مص): چوڑائی، کشادگی، فراخی، پھیلاؤ- کہا جاتا ہے: رُحْبًا بکم: تم نے فراخی کو پایا- الرَحْب: وسیع، کشادہ، فراخ- کہا جاتا ہے: مكانٌ رَحْبٌ و ارضٌ رَحْبَةٌ: فراخ جگہ، کشادہ زمین- رَحْبُ الصدر: بڑے حوصلے کا آدمی، بڑے دل والا آدمی- رَحْبُ الفهم: زیادہ سمجھدار- رَحْبُ الذراع بالامر: کام کرنے کے قابل- رَحْبُ الباع او الذراع: سخی، فیاض- الرُحْبَی (ع ا): سب سے چوڑی پسلی- الرُحْبَیَان (ع ا): بغل سے متصل دو پسلیاں- الرَحْبَة و الرَحَبَة جمع رِحَاب و رَحَب و رَحَبَات و رَحْب و رَحَبَات: کشادہ زیادہ گھاس والی اور لوگوں کی فرودگاہ زمین، گھروں کے درمیان کھلی جگہ ــــ من الدار: گھر کا صحن ــــ من الوادی: وادی کے ہر دو جانب پانی کے بہاؤ کی جگہیں- رَحَبَةُ السَیّارات (ا ع): آٹو پارک، کار پارک، وہ میدان جہاں کاریں وغیرہ کھڑی کی جائیں، مرمت کی جائیں اور تیل وغیرہ دیا جائے- الرَحِیب: بسیار خور، پیٹو- المَرْحَب: کشادگی- آنے والے سے خوش آمدید کے طور پر کہا جاتا ہے: مَرْحَبًا بك: تو نے فراخی کو پایا، مراد (تجھے) خوش آمدید- مَرْحَبَكَ اللّٰهُ و مَسْهَلَكَ: اللہ تعالیٰ تم کو کشادہ و نرم زمین میں اتارے- اهلاً و مَرْحَبًا: تم اپنے اہل میں آئے، تم نے کشادگی پائی- لہٰذا دل لگاؤ اور نہ گھبراؤ- بددعا کے موقع پر کہتے ہیں: لا مَرْحَبًا بك- رَحَائِب التخوم (واحد رَحِیبَة): وسیع و عریض ممالک- التَرْحاب: خوش آمدید-

○ رَحِبَ-َ رَحَبًا و رَحُبَ-ُ رُحْبًا و رَحَابَةً: چوڑا ہونا، کشادہ ہونا، فراخ ہونا، کھلا ہونا، کافی جگہ یا گنجائش والا ہونا- رَحَّبَ ب: کسی (شخص یا خبر وغیرہ) کو خوش آمدید کہنا، کا خیر مقدم کرنا، کسی کا بنظر توجہ استقبال کرنا، کسی کو اس کی آمد ناگوار محسوس نہ ہونے دینا، کو خوش آمدید کہنا- تَرَحَّبَ ب: کو خوش آمدید کہنا، کا خیر مقدم کرنا- رَحْبٌ: چوڑا، کشادہ، فراخ، کھلا، وسیع، کافی جگہ یا گنجائش والا- رَحْبُ الصدر: سخی، فیاض، فراخ دل، کشادہ دل، وسیع النظر، روادار، بے تعصب، صاف دل، صاف گو، صاف باطن، بے لاگ، مخلص، پرخلوص، ذمہ داریوں اور پریشانیوں سے آزاد- صدرٌ رَحْبٌ: سخاوت، فیاضی، فراخ دلی، کشادہ دلی، وسیع النظری، رواداری، بے تعصبی، صاف دلی، صاف گوئی، حق گوئی، بے لاگ پن، غیر جانبداری- رَحْبُ الباع: سخی، فیاض، فراخ دل، روادار، بے تعصب- رَحْبُ الذراع: بمعنی رَحْبُ الباع- رُحْب: چوڑائی، کشادگی، فراخی، کھلا پن، وسعت- اَتَی علی الرُحْبِ والسَعَة: کو خوش آمدید کہا جانا- وَجَدَ رُحْبًا و سَعَةً: دوستانہ استقبال کیا جانا- رَحَب: وسعت، فراخی، کشادگی، چوڑائی، گنجائش- رَحَبُ الصدر: سخاوت، فیاضی، فراخ دلی، بے غمی- رَحْبَة و رَحَبَة جمع رَحَبَات: (عمارت سے گھرا ہوا) چوک جمع رَحَبَات و رِحَاب: فراخی، کشادگی، پھیلاؤ، وسعت، وسیع علاقہ، پہنائی- رِحَابُ الکَوْن و رِحَابُ الفَضَاء: فضائے بسیط کی وسعت، پہنائی- رَحِیب: بمعنی رَحْب- رَحَابَة: وسعت، چوڑائی، کشادگی، فراخی، کھلی جگہ، گنجائش- رحابة الصدر: سخاوت، فیاضی، عالی ظرفی، فراخ دلی، بلند حوصلگی- مَرْحَبًا بك: خوش آمدید- تَرْحَاب: خوش آمدید، خیر مقدم، تہنیت، مبارکبادی- قَابَلَهُ بترحاب: کا گرمجوشی سے استقبال کرنا- تَرْحِیب: خوش آمدید کہنا، خوش آمدید، خیر مقدم، تہنیت، مبارکبادی-

○ رَحْرَحَ بالکلام: گول یا پہلودار بات کرنا، مبہم بات کرنا، اصل معاملہ سے دور رہنا- رَحْرَح و رَحْرَاح: چوڑا، کشادہ، وسیع، چپٹا، بے غم و فکر اور خوشگوار (زندگی)-

رحض: ١- رَحَضَ-َ رَحْضًا و اَرْحَضَ الثوبَ: کپڑا دھونا- رُحِضَ المحمومُ: بخار والے کو پسینہ آنا- ثوبٌ رَحْضٌ: دھو کر گھسا پٹا کپڑا- الرُحَاض: بخار

کے بعد آنے والا پسینہ الرَّحِيض: دھلا ہوا، دھویا
ہوا الرُّحَاضَة: دھوون، دھونے پر گندہ ہونے والا
پانی الرُّحَضَاء: بخار کے اترتے وقت کا پسینہ، بدن
کو تر ابور کرنے والا پسینہ المِرْحَاض جمع
مَرَاحِيض: غسل خانہ، دھونے کی جگہ، کپڑا دھونے
کا ڈنڈا، موگری، عام لوگ اسے "المخباط" کہتے
ہیں، پاخانہ المِرْحَضَة و المِرْحَاضَة: وہ برتن
جس میں وضو کیا جائے۔
۲۔ اِرْتَحَضَ الرجل: رسوا ہونا، شرمندہ ہونا۔
رحض رَحْضًا: دھونا، کھنگالنا، مل مل کر دھونا۔
مِرْحَاض جمع مَرَاحِيض: غسل خانہ، پاخانہ،
بیت الخلاء۔
رحق الرُّحَاق: شراب الرَّحِيق: شراب، ایک قسم کی
خوشبو مِسْكٌ رَحِيقٌ: خالص مشک حَسَبٌ رَحِيقٌ:
خالص بے کھوٹ حسب۔
رحل ۱۔ رَحَلَ رَحْلًا و رَحِيلًا و تَرْحَالًا عن
المكان: کوئی جگہ چھوڑ جانا ۔۔ إلى المكان: کسی
جگہ منتقل ہونا ۔۔ البعيرَ: اونٹ کی پیٹھ پر کجاوہ باندھنا،
اونٹ پر سوار ہونا ۔۔ البلادَ: ملک میں ادھر ادھر پھرنا،
گھومنا رَحَّلَهُ: کو تنگ کرنا، کوچ کرانا، کے کوچ
کرنے میں کوشش کرنا ۔۔ الثوبَ: کپڑے پر نقش و
نگار بنانا أَرْحَلَهُ: کی کوچ کرنے میں مدد کرنا أَرْحَلَ:
بہت سے سواری کے جانور رکھنا ۔۔ تِ الدابةُ:
جانور کا قوی پشت اور لاغری کے بعد فربہ ہو کر سفر کے
قابل ہونا ۔۔ هُ: کو سواری دینا ۔۔ الابلَ او الناقةَ:
اونٹ یا اونٹنی کو سواری کے لئے سدھانا تَرَحَّلَ
القومُ عن المكان: لوگوں کا کسی جگہ سے منتقل ہو
جانا اِرْتَحَلَ عن المكان: کسی جگہ سے منتقل ہو
جانا ۔۔ البعيرَ: اونٹ پر کجاوہ کسنا، اونٹ پر سوار
ہونا اِسْتَرْحَلَهُ: سے سواری کا جانور مانگنا، سے
سواری پر پالان ڈالنے کے لئے کہنا الرَّحْل (مص)
جمع رِحَال: کجاوہ، پالان، سفر میں ساتھ رکھنے والا
سامان۔ (کہا جاتا ہے حَطَّ رَحْلَهُ و ألقى رَحْلَهُ:
وہ رہ پڑا اور اقامت گزین ہوا)، منزل، قیام گاہ۔ آپ
کہتے ہیں عاد المسافرُ إلى رَحْلِهِ: مسافر اپنی رہنے
کی جگہ لوٹ آیا الرِّحَال: غالیچہ الرُّحْلَة: جہت
سفر۔ (آپ کہتے ہیں دمشقُ رُحْلَتُنا: دمشق وہ
جہت ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں)، سفر بعيرٌ
ذو رُحْلَة: قوی مضبوط اونٹ عالمٌ رُحْلَة: وہ
عالم جس کی طرف لوگ کوچ کر کے آئیں الرِّحْلَة:
کوچ، (آپ کہتے ہیں غدًا رِحْلَتُنا: کل ہم کوچ کر
جائیں گے)۔ سفرنامہ، سفر کی قسم۔ (آپ کہتے ہیں:
رحل فلانٌ رِحْلَةَ مَنْ لا يعود: فلاں شخص نے
ایسے شخص کا کوچ کیا جو واپس نہ آئے) بعيرٌ
ذو رِحْلَة: قوی اور مضبوط اونٹ الرَّحِيل
(مص): کوچ، وہ اونٹ جس پر پالان کسا ہوا ہو۔
جمل رَحِيل: چلنے کی طاقت رکھنے والا اونٹ ناقة
رَحِيلَة: چلنے کی طاقت رکھنے والی اونٹنی الراحل
(فا) جمع راحلون و رُحَّل و رُحَّال: کوچ
کرنے والا، منتقل ہونے والا، کسی جگہ کو چھوڑ کر جانے
والا الرَّحُول: بہت کوچ کرنے والا المُرْحِل:
بہت سی سواری والے جانوروں والا ۔۔ و المُرَحَّل
من الجمال: قوی اونٹ الأَرْحَل من الخيل
و الشاء: سفید پشت والا گھوڑا، سفید پشت والی
بکری المُرَحَّل من الإبل: اونٹ جس پر پالان
کسا ہوا ہو ۔۔ من الثياب: نقش و نگار والا کپڑا۔
الرَّحَّال جمع رَحَّالة: بہت سفر کرنے والا، کجاوہ
بنانے والا ۔۔ الرَّحَّالَة: بہت سفر کرنے والا۔
الراحلة من الابل جمع رواحل: سواری کے
لائق اونٹ، سفر و بار برداری کے لئے طاقتور اونٹ یا
اونٹنی (مذکر و مونث دونوں کے لئے) تا مبالغہ کی ہے۔
الرِّحَالَة جمع رَحَائِل: چمڑے کا زین جس میں
لکڑی نہ لگی ہو الرَّاحُول: کجاوہ المَرْحَلَة جمع
مَرَاحِل: اس قدر مسافت جس کو مسافر ایک دن میں
طے کرے، مسافر کے ایک دن کا سفر مُرْتَحَل البعير:
اونٹ پر کجاوہ باندھنے کی جگہ۔
۲۔ رَحَلَ ـ رَحْلًا و رَحِيلًا و تَرْحَالًا هُ بالسيف:
کسی پر تلوار اٹھانا۔
۳۔ رَحَلَ ـ رَحْلًا و رَحِيلًا و تَرْحَالًا فلانٌ فلانًا بما
يكره: کسی کا کسی سے ناگوار طور پر پیش آنا۔ کہا جاتا
ہے رَحَلْتُ له نفسي: میں نے اس کی اذیت پر
صبر کیا ۔۔ رَحَّلَ فلانًا: کے ساتھ ناپسندیدگی سے پیش
آنا اِرْتَحَلَ الامرَ: کسی امر پر قابو پانا اِسْتَرْحَلَ
الناسَ نفسَهُ: خود کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا۔
رَحَلَ ـ رَحِيلًا: (سفر پر) روانہ ہونا، روانہ ہونا، چلے
جانا، رخصت ہونا، چھوڑ جانا، ترک وطن کر جانا، منتقل ہو
جانا ۔۔ عن: کسی جگہ سے روانہ ہونا رجل يرحل و
يقيم: ہمیشہ مصروف، کارکن شخص رَحَّلَهُ: کو چھوڑ
جانے کا باعث ہونا، کو روانہ ہونے پر اکسانا یا زور
دینا ۔۔ ہ إلى: کو کسی دوسری جگہ نکال کر لیجانا، کو کسی
دوسری جگہ بسانا، بٹھانا، کو کسی دوسری جگہ نکال دینا، جلا
وطن کرنا ۔۔ ہ: کو ہجرت کرنے دینا، کو سفر کا پروانہ
دینا ۔۔ هم: (بحری جہاز کا) لوگوں کو لیجانا ۔۔ ہ:
کو منتقل کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانا، اٹھا لے
جانا، روانہ کرنا، ارسال کرنا، آگے بھیجنا ۔۔ ہ: (رقم
وغیرہ) کو اگلے صفحے پر لے جانا تَرَحَّلَ: ادھر ادھر
پھرنا، بے مقصد پھرنا، بھٹکتے پھرنا، گھومنا، سیر کرنا،
مٹرگشت کرنا، ہجرت کرنا، دیس چھوڑنا، ترک وطن کرنا،
نقل مکانی کرنا، خانہ بدوش زندگی بسر کرنا، نکالا جانا۔
اِرْتَحَلَ: روانہ ہونا، کوچ کرنا، ہجرت کرنا اِرْتَحَلَ
إلى رحمة ربه: مرنا، فوت ہونا، وفات پانا الرَّحْل
جمع رِحَال: زین، کجاوہ، پالان، کاٹھی، خورجین،
سفری سامان (جمع): رکنے یا ٹھہرنے کی جگہ، سفر کے
دوران کسی جگہ مختصر قیام شَدَّ الرِّحَال: روانہ ہونا،
کوچ کر جانا ألقى رِحَالَهُ في: کسی جگہ رکنا۔
رِحْلَة: سفر، سیاحت، سیاحی مہم کا باتصویر تذکرہ۔
رُحْلَة: منزل مقصود، وہ جگہ جہاں پہنچنا ہو الرَّحِيل:
روانگی، ترک وطن کر کے جانا، ہجرت، مہاجرت، کوچ،
موت، وفات، انتقال الرَّحَّال جمع رُحَّل: گھومنے
پھرنے والا، کسی جگہ کے چکر لگانے والا، ادھر ادھر
پھرنے والا، مٹرگشت کرنے والا، سیر کرنے والا، بھٹکنے
والا، ہجرت کرنے والا، نقل مکانی کرنے والا، خانہ
بدوش، خانہ بدوشانہ جمع رَحَّالَة: بڑا مسافر، سیاح، غیر
معروف علاقہ کی سیاحت کرنے والا، خانہ بدوش،
بدوی الطيورُ الرحَّالَة: نقل مکانی کرنے والے
پرندے الأعراب (العُربان) الرُّحَّل: خانہ بدوش
بدوی الرَّحَّالَة: بڑا سیاح، مسافر، غیر معروف علاقہ کی
سیاحت کرنے والا، جہاں گرد، جہاں گشت المَرْحَلَة
جمع مَرَاحِل: ایک دن کا سفر، سفر کا ایک مرحلہ، راستہ
میں رکنے یا قیام کرنے کی جگہ، مرحلہ، مقام، دور۔
يَزِيدُ عليه بِمَرَاحِل: یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔
في مراحل حياتها: اس خاتون کی زندگی بھر، اس
خاتون کی زندگی کے تمام مراحل میں التَّرَحُّل: روانگی۔
حياة الترحال: خانہ بدوشانہ زندگی التَّرْحِيل:
ترک وطن، ہجرت، جلاوطنی، دوسرے ملک میں منتقل
ہونا، رحلت، کوچ خروج، کسی کی روانگی کی تکمیل یا اس کا
بروئے کار لانا، دیس نکالا، جلاوطنی، انخلا، دوبارہ آباد
ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال، نئے گھر میں
جانا، مسافر یا اسباب لیجانا، نقل و حمل، حساب کھاتے
میں درج کرنا، رقم وغیرہ دوسرے صفحہ پر لیجانا، ارسال،
ترسیل التَّرْحِيل عُمَّال: کام کرنے والوں کا تقرر۔
الارتحال: روانگی، کوچ، ترک وطن، جلاوطنی، دوسرے
ملک میں منتقلی، خروج، اخراج، موت وفات الراحل

جمع رُحَّل: کوچ کرنے والا، روانہ ہونے والا، چھوڑ کر جانے والا، جدا ہونے والا، سفر کرنے والا، سیاحت کرنے والا۔جمع راحِلُون: متوفی، آنجہانی، دنیا سے جانے والا، مرحوم۔الفقید الراحل: مرحوم۔ راحِلة جمع رَوَاحِل: سواری کی اونٹنی۔شَدَّ راحِلَتَهٗ: اونٹ پر پالان کسنا، سفر پر روانہ ہونا۔مُرَحَّل جمع مُرَحَّلات: رقم وغیرہ جو اگلے صفحہ پر لیجائی گئی ہو۔مجموعٌ مُرَحَّلٌ: میزان جو اگلے صفحہ پر لیجایا گیا ہو۔

ⓘ راحیل: راچل (عورتوں کا نام)۔

رحم: ا۔رَحِمَ ۔رَحْمَةً و مَرْحَمَةً و رُحْماً و رُحُمًا ہٗ: پر ترس کھانا، رحم دل ہونا، مہربانی و شفقت کرنا، کو معاف کرنا، کی مغفرت کرنا۔رَحَّمَ و تَرَحَّمَ علیه: کیلئے رَحِمَهُ اللّٰه کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرے اور اسے معاف کرے۔تَرَاحَمَ القومُ: ایک دوسرے پر رحم کرنا، ترس کھانا۔اِسْتَرْحَمَهٗ: سے مہربانی کی التجا کرنا۔الرُّحْم والرَّحْمَة والرُّحْمَى: نرم دلی ترس جو مغفرت و احسان کا مقتضی ہو۔الراحم والرَّحُوم: مہربانی کرنے والا، ترس کھانے والا، شفقت کرنے والا، معاف کرنے والا۔الرَّحِیم جمع رُحَمَاء: بمعنی الراحم۔اللہ تعالیٰ کا ایک نام، رحم کیا ہوا۔الرَّحْمَان: مہربانی کرنے والا۔اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ایک نام اور اللہ تعالیٰ سے مخصوص۔المُرَحَّم: رحم اور معاف کیا ہوا۔والمرحوم: متوفی۔المَرْحَمَة جمع مَرَاحِم: رحمت۔الرَّحَمُوت: رحمت عظیم۔کہا جاتا ہے: رَهَبُوت خیرٌ من رَحَمُوت: تیرا ڈرایا جانا اس سے بہتر ہے کہ تجھ پر مہربانی کی جائے۔(یہ ہمیشہ جوڑا استعمال ہوتا ہے)۔

۲۔رَحِمَ ۔و رَحُمَ ۔رَحْماً و رَحَمًا و رَحَامَةً و رُحِمَت المرأةُ: ولادت کے بعد عورت کے رحم میں شکایت پیدا ہو جانا۔صفت رَحُوم و رَحِمَة و رَحْمَاء۔الرَّحِم والرِّحْم (مؤنث) جمع أرْحام: بچہ دانی، رشتہ داری۔کہا جاتا ہے ھُو الرحم: رشتہ دار، قرابت والا۔الأرْحَام (طب): رحم کی ایک بیماری۔

ⓘ رَحِمَ ۔رَحْمَةً ومَرْحَمَةً ہ: پر رحم کھانا، ترس کھانا، پر مہربانی کرنا، رحم کرنا، کو چھوڑ دینا۔رَحَّمَ علیه: کسی کو رَحِمَكَ اللّٰه کہنا جس کا معنی اللہ تجھ پر رحم کرے ہے۔۔۔ علی: اللہ تعالیٰ سے کسی پر رحم کرنے کی درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ہوا اس کے لئے عفو و درگذر کی التجا کرنا۔تَرَحَّمَ علیه بمعنی رَحَّمَ علی۔تَرَاحَمَ: ایک دوسرے کے لئے انسانی مفاہمت ظاہر کرنا، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کا احترام کرنا۔اِسْتَرْحَمَهٗ: سے مہربانی یا رحم کی درخواست کرنا۔رَحِم و رِحْم جمع أرْحَام: رحم، بچہ دانی، رشتہ داری، قرابت۔ذوو الارحام: ماں کی طرف سے رشتہ دار۔رَحْمَة: رحم، ترس، انسانی مفاہمت، مہربان، ہمدردی، عفو و درگذر۔کان تحت رَحْمَتِه: کسی کے رحم و کرم پر ہونا۔جَعَلَهُ تحتَ رحمته: کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑنا۔بساط الرحمة: جنازے کے اوپر کی چادر تابوت کو ڈھکنے والی چادر، قبر کی چادر۔رَحِیم جمع رُحَمَاء ورَحُوم: رحم دل، نرم دل، دردمند، مہربان، غفور، رحیم، کریم، ترس کھانے والا، خدا ترس۔الرحمان: رحیم، اللہ تعالیٰ کا ایک نام۔مَرْحَمَة جمع مَرَاحِم: رحم، ترس، دیا، رحم، خدا ترسی، تلطف، مہربانی، ہمدردی، شفقت، عفو، درگذر۔تَرْحِیم المَوْتَى جمع تَرَاحِیم: مرنے والے کے لئے دعا (مسیحیت میں)۔اِسْتِرْحَام: رحم کی درخواست۔مرحوم: متوفی، مرنے والا۔المرحوم السید: مرحوم جناب فلاں۔

رحا: ا۔رَحَا ۔رَحْوًا و رَحَى ۔رَحْيًا و تَرَحَّى ت الحیَّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔

۲۔رَحَا ۔رَحْوًا الرحی: چکی چلانا۔الرَّحَى (مونث) تثنیہ رَحَوَان و رَحَیَانِ جمع أرْحَاء و أرْحِیَة و أرْحٍ و رُحِیّ و رِحِیّ و أرْحِیّ: چکی۔۔۔ جمع أرْحَاء: لڑائی کا گھمسان، داڑھ۔کہا جاتا ہے طَحَنَهٗ بأرْحَائِه: اس نے اسے اپنی داڑھوں سے پیس ڈالا۔المَرْحَی: گھمسان کی لڑائی۔المُرَحِّی: چکی بنانے والا۔

۳۔الرَّحَی جمع أرْحَاء: سینہ، قوم کا سردار (کہا جاتا ہے ھُو رَحَی قومِهٖ: وہ اپنی قوم کا سردار ہے) بدلی (چھوٹا بادل) وہ قبیلہ جو گھاس پانی کی طلب میں نہ جائے اور اپنی جگہ سے نہ ٹلے۔

ⓘ رَحًی مونث جمع أرْحَاء ورُحِیّ وأرْحِیَة: چکی (ہاتھ کی) حَجَرُ الرَّحَی: چکی کا پاٹ۔دارت رَحَی الحرب/القتال: جنگ (لڑائی کا یکا یک لگ جانا، جنگ (لڑائی) جاری تھی۔رَحَوِیّ: گھومنے والا، گردش کرنے والا۔رَحَّایِ جمع رَحَّایُون: پیسنے والا۔

رخّ: ا۔رَخَّ ۔رَخًّا ہٗ: کو پاؤں سے روند کر ڈھیلا کرنا۔۔۔ الشراب: شراب میں پانی کی آمیزش کرنا۔۔۔ العجینُ: گندھے ہوئے آٹے میں پانی زیادہ ہو جانا۔عام لوگ رَخَّهٗ کو اتفاق سے ضرب لگانا کے معنے میں لیتے ہیں اور رَخّ سے سر جھکانا یا زمین کی طرف جھکنا مراد لیتے ہیں۔أرَخَّ العجینَ: گندھے ہوئے آٹے میں پانی زائد کرنا۔۔۔ فی الامر: معاملہ میں مبالغہ کرنا۔اِرْتَخَّ الرجلُ: ڈھیلا ہونا، مضطرب ہونا۔الرَّخّ: ہلکی پھوار، ترشح (عام لوگوں کی زبان میں)۔الرَّخَخ: سہولت، نرمی۔الرَّخَاخ (ن): نرم و تازہ پودا۔رَخَاخُ العَیْشِ: زندگی کی آسودگی و فراخی۔عَیْشٌ رَخَاخٌ: آرام دہ و خوشگوار زندگی۔أرضٌ رَخَاخٌ: نرم زمین۔أرْضٌ رَخَّاء جمع رَخَاخِیّ: نرم زمین۔

۲۔الرُّخّ جمع رِخَاخ و رِخَخَة: شطرنج کا ایک مہرہ۔واحد رُخَّة جمع رِخَاخ و رِخَخَة (ح): ایک خیالی بڑا پرندہ۔

۳۔الرَّخْرَخ والرَّخْرَاخ: پتلا گارا۔المُرَخْرَخ: نرم و تازہ۔

ⓘ رَخَّ ۔رَخًّا ہ: شراب میں پانی ملانا، میں پانی ملا کر ہلکا کرنا۔رَخّ واحد رخة: ہلکی پھوار، ترشح۔رُخّ: ایک بڑے افسانوی پرندے کا نام (جمع رخاخ ورِخَخَة): رُخّ: شطرنج کا ایک مہرہ۔رَخَاخ: نرم (زمین)، آرامدہ، خوشگوار اور مطمئن (زندگی)۔

رخت: الرَّخْت جمع رُخُوت: زین۔

رخش: تَرَخَّشَ و اِرْتَخَشَ: مضطرب ہونا۔الرُّخْشَة: اضطراب۔

رخص: ا۔رَخُصَ ۔رُخْصًا الشیءُ: سستی ہونا۔صفت رَخِیص۔رَخَّصَ السِّعْرَ: بھاؤ مندا کرنا، گھٹانا، سستا کرنا۔أرْخَصَهٗ: کو سستا کرنا، کو سستا پانا یا سستا خریدنا۔اِرْتَخَصَهٗ: کو سستا سمجھنا یا سستا خریدنا۔اِسْتَرْخَصَ الشیءَ: کو سستا سمجھنا۔الرَّخِیص: سستا۔موتٌ رَخِیصٌ: جلد آنے والی موت۔

۲۔رَخُصَ ۔رَخَاصَةً و رُخُوصَةً: نرم و نازک ہونا۔صفت رَخْصٌ و رَخِیصٌ مونث رَخْصَة جمع رَخَائِص۔

۳۔رَخَّصَ لهٗ کذا او فی کذا: کسی کو کسی چیز کی ممانعت کے بعد اس کی اجازت دینا۔تَرَخَّصَ فی الامر: کسی امر میں رخصت پر عمل کرنا۔۔۔ فی کذا: کو کسی اجازت دیا جانا۔۔۔ فی حقِّهٖ: اپنے حق میں جو ممکن ہو لینا، حق پورا نہ لینا۔الرُّخْصَة و الرُّخُصَة: تخفیف، آسانی۔(کہا جاتا ہے لَكَ فی هذا الامر رُخْصَة: تیرے لئے اس معاملہ میں تخفیف یا آسانی ہے)، پینے کی باری۔

رَخُصَ ـُ رُخْصًا: سستا ہونا، ارزاں ہونا ۔ رَخَاصَةً: نرم و لچکدار ہونا، نازک ہونا ۔ رَخَّصَ ل ب/فی: کو کی اجازت دینا، کو کچھ کرنے کی اجازت دینا، کو کچھ کرنے کا اختیار دینا، کو کا لائسنس دینا ۔ ـــ ل: کو اختیار دینا، مختار کرنا، مجاز کرنا ۔ ہ: کی قیمت کم کرنا ۔ اَرْخَصَ ہ: کی قیمت کم کرنا ۔ تَرَخَّصَ مع فی: کو میں خوش کرنے پر آمادہ ہونا، کو میں جائز شرائط پر ملنا، سے میں معاملہ کو رفع دفع کرنے کو تیار ظاہر کرنا ـــ فی ب: میں رعایتیں دینا ۔ فی: میں بیجا بے تکلفی سے کام لینا ۔ اِسْتَرْخَصَ ہ: کو سستا پانا، ارزاں سمجھنا ۔ ہ: کی اجازت چاہنا ۔ رَخْص: نرم، لچکدار، نازک ۔ رُخْص: ارزانی ۔ رُخْصَة جمع رُخَص: اجازت، رعایت، لائسنس، حق، رسائی، اختیار، رخصت، پرمٹ ۔ رُخْصَةُ قیادة السیارات: کار چلانے کا پرمٹ، لائسنس ۔ رَخِیص: لچکدار، نازک، نرم، سستا، ارزاں، کم قیمت، نکمی و ردی چیز، گھٹیا بھڑک دار چیز، محض نمائشی ۔ تَرْخِیص جمع ترخیصات: اجازت دینا، اجازت، اختیار، اختیارات تفویض کرنے والا فرمان، رعایت، لائسنس، قیمت میں کمی، قیمت میں کٹوتی ۔ مُرَخَّص: کم قیمت، ارزاں، سستا ۔ کل مُرَخَّصٍ و غالٍ: ہر چیز (جو کسی کے اختیار میں ہو) ۔ خیال میں آجانے والی ہر کوشش ۔

رخف: رَخُفَ ـُ رَخْفًا و رَخِفَ ـَ رَخَفًا و رُخُفَ، رَخَافَةً و رُخُوفَةً العجینُ: گندھے ہوئے آٹے کا ڈھیلا ہونا، پتلا ہونا ۔ صفت رَخْفٌ و راخِفٌ ۔ اَرْخَفَ العجینَ: آٹے کو پتلا کرنا، آٹے میں پانی زیادہ کرنا ۔ الرَّخْف جمع رِخَاف: ڈھیلا یا پتلا آٹا، پتلا مکھن ۔ الرَّخْفَة جمع رِخَاف: پتلا آٹا یا مکھن ۔ ـ والرَّخِف: نرم پتلا پتھر ۔

رخل: الرِّخْل و الرَّخِل والرِّخْلَة جمع اَرْخُل و رُخَال و رِخَال و رِخْلان و رَخْلَة و رَخَلَة (ح): بھیڑ کا مادہ بچہ ۔ المُتَرَخِّل: بھیڑ کے مادہ بچے بہت رکھنے والا ۔

رخم: ۱ رَخُمَ ـُ رَخْمًا و رَخُمَ ـُ رَخَامَةً الصوتُ او الکلامُ: آواز یا کلام کا باریک و نرم ہونا ۔ صفت: رَخِیم ۔ ـ ت الجاریةُ: لڑکی کا نرم کلام والی ہونا ۔ صفت رَخِیمة و رَخِیم ۔ رَخَّمَ تَرْخِیمًا الشیءَ: چیز کو باریک و نرم کرنا، کی دم کاٹنا ۔ اسی سے نحویوں نے ترخیم المنادیٰ کو لیا ہے ۔ یعنی ندا کے طور پر آنے والے نام کے آخری حرف کو حذف کر دینا ۔

۲ رَخَمَ ـُ رَخْمًا و رَخَمًا و رَخَمَةً ـتِ الدجاجةُ البیضَ و علی البیضِ: مرغی کا انڈے سینا ۔ صفت رَاخِم و مُرْخِم و مُرْخِمَة ۔ ـ رَخْمًا و رَخْمَةً و رَخَمَةً ـت المرأةُ ولدَها: عورت کا اپنے بچے سے کھیلنا اس سے لاڈ پیار کرنا ـــ ہُ: پر رحم و مہربانی کرنا ۔ رَخِمَ: بمعنی رَخَمَ ۔ رَخَّمَ تَرْخِیمًا الدجاجةَ: مرغی کو انڈوں پر بٹھانا ۔ اَرْخَمَتِ الدجاجةُ علی البیضِ: مرغی کا انڈے سینا ۔ صفت رَاخِم و مُرْخِم و مُرْخِمَة ۔ الرَّخْم (مص): نرمی، محبت ۔ الرُّخَامَی: نرم ہوا ۔

۳ الرَّخَم: کا ڑھا دودھ ۔ الرَّخَم واحد رَخَمَة جمع رُخْم (ح): گدھ ۔ الرُّخَام: سنگ مرمر ۔ الرُّخَامَة: سنگ مرمر کا ایک ہموار تختہ ۔ الاَرْخَم من الخیل مؤنث رَخْمَاء جمع رُخْم: وہ گھوڑا جس کا سر سفید اور باقی جسم سفید ہو ۔ الرُّخَامَی (ن): ایک قسم کا پودا ۔ الیَرْخُوم و الیَرْخُوم و الیَرْخُم (ح): نر گدھ ۔

رَخُمَ ـُ رَخَامَةً و رَخَمَ ـُ رُخْمًا: آواز کا نرم، ملائم، لطیف، خوشگوار ہونا ۔ رَخَمَتْ بیضَها و علی بیضِها: مرغی کا انڈے سینا، انڈوں پر بیٹھنا ۔ رَخَّمَ ہ: آواز کو نرم و ملائم کرنا ۔ ہ: (لفظ) کو حذف کرنا، مختصر کرنا یا کم کرنا ـــ ہ: فرش پر سنگ مرمر کے ٹائل لگانا ۔ رَخَم واحد رَخَمَة: مصری گدھ ۔ رُخَام: سنگ مرمر ۔ رُخَامَة جمع رُخَامات: سنگ مرمر کا ہموار تختہ، سلیب (slab) ۔ رَخِیم: نرم، ملائم، خوشگوار، خوش آہنگ، سریلی، رسیلی (آواز)، ہلکا سر، نیچا سر ۔ تَرْخِیم: کم کرنا، مختصر کرنا، حذف کرنا (خصوصاً منادیٰ کے آخری حرف ہجے کو) ۔

رخی: ۱ رَخِیَ ـَ رَخًا و رِخْوَةً و رَخُوَ ـُ رَخَاوَةً: نرم ہونا، آسان ہونا، آسودہ زندگی والا ہونا ۔ صفت رَخْو و رُخْو و رِخْو ۔ رَخَا ـُ و رَخِیَ ـَ و رَخِیَ ـَ و رَخُوَ ـُ رَخَاءً العیشُ: زندگی کا آسودہ، فراخ و خوشگوار ہونا ۔ صفت رَاخٍ و رَخِیّ ۔ رَخَّی الشیءَ بالشیءِ: چیز کو چیز میں ملانا، خلط ملط کرنا ۔ رَاخَی مُرَاخَاةً الشیءَ: کو نرم کرنا ۔ ـ العقدةَ: گرہ کھولنا ۔ کہا جاتا ہے رَاخَی خناقَهُ او رِباقَهُ: اس نے اس کے پھندے دور کر دیئے ۔ اَرْخَی اِرْخَاءً الشیءَ: کو ڈھیلا کرنا ۔ کہا جاتا ہے اَرْخَی عمامتَهُ: وہ مطمئن اور مامون ہوا ۔ ـ زِمَامَ الناقةِ: اونٹنی کی نکیل کو ڈھیلا چھوڑنا ـــ الستر: پردہ چھوڑنا ـــ دابَّتَهُ: جانور کو اپنی مرضی سے چلنے دینا، تھکائے بغیر دوڑنے دینا ـــ الفرسَ و للفرسِ: گھوڑے کی رسی دراز کرنا ۔ کہا جاتا ہے اَرْخِ لَهُ الحبلَ: اسے کام کرنے میں آزادی دو ۔ تَرَاخَی الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنے میں سست و کاہل ہونا ۔ اِرْتَخَی: ڈھیلا ہونا، نرم ہونا ۔ اِسْتَرْخَی: ڈھیلا ہونا، نرم ہونا ۔ ـ ت به حالُهُ: سے اس کی حالت سختی و تنگی کے بعد اچھی اور خوشگوار ہونا ۔ الرَّخَاء (مص): زندگی کی آسودگی و فراخی ۔ الرُّخَاء: نرم ہوا جو کسی چیز کو نہ ہلائے ۔ المِرْخَاء جمع مَرَاخٍ: تیز دوڑنے والا جانور ۔ التَّرَاخِی مصدر تَرَاخِی: کہا جاتا ہے اِنَّ فی الامر تَرَاخِیًا: اس امر میں گنجائش اور پھیلاؤ ہے ـــ الاخلاقی: اخلاقی ڈھیلا پن، آوارگی، بدچلنی، اخلاقی کمزوری ۔ الاُرْخِیَة جمع اَرَاخِیّ: ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے ۔ الرَّخْوِیَات (ج): بحری یا پانی کے ڈھیلے جانور خصوصاً گھونگھے دار سیپ اور سنکھ ۔

۲ رَاخَی مُرَاخَاةً ہُ: کو دور کرنا ۔ کہا جاتا ہے خلتُ الفرار یُرَاخِی الاجلَ: میں نے خیال کیا کہ فرار موت کو دور کر دیتا ہے ۔ تَرَاخَی تَرَاخِیًا: پیچھے رہنا، دیر کرنا ۔ کہا جاتا ہے تَرَاخَتِ السماءُ: بارش برسنے میں دیر ہوئی ۔ ـ عنه: سے دور ہونا ۔

۳ رَاخَتِ المرأةُ: عورت کا بچہ جننے کے قریب ہونا ۔

رَخُوَ ـُ و رَخِیَ ـَ رَخَاوَةً و رَخَاءً: ڈھیلا ہونا یا ہو جانا، کمزور، کاہل یا سست ہونا یا ہو جانا، نرم ہونا یا ہو جانا، سست پڑ جانا، ٹھنڈا پڑ جانا، جھک جانا، گھٹنا، مندا ہونا ۔ رَخَا ـُ رَخَاءً عیشُهُ: متمول زندگی گزارنا، اچھے حالات میں زندگی بسر کرنا ۔ اَرْخَی ہ: کو ڈھیلا کرنا، چھوڑنا، نیچا کرنا، گرانا، لٹکانا ۔ تَرَاخَی: سست ہونا، جھکنا، خمیدہ ہونا، گر پڑنا، لنگڑا ہو جانا ـــ عن: میں ناطاقتی یا تھوڑی سرگرمی ظاہر کرنا، کم طاقت ور ہونا، ڈھیلا ڈھالا یا بے پرواہ ہونا، فرض ناشناس ہونا ـــ: قیمتوں کا گرنا، مندا ہونا، پیچھے رہنا، (منڈی کا) ماند، سرد یا پھیکا پڑنا، کم ہونا، گھٹنا، نڈھال ہونا، اترنا، کمزور ہونا ـــ عن: سے باز رہنا ـــ: (پردہ) کا گرنا، نیچا ہونا، دیر کرنا، کم ہونا ۔ اِسْتَرْخَی: سست ہو جانا، مندا ہونا، جھکنا، دہرا ہونا، گر پڑنا، لنگڑا ہو جانا، ڈھیلا ڈھالا ہو جانا، ڈھیلا ہو جانا، نرم ہو جانا، کھلا ہو جانا، کھلنا، گھٹنا، کم ہو جانا، کم مضبوط ہونا، نڈھال ہونا، طاقت زائل ہونا ۔ رُخْو و رِخْو: ڈھیلا، ڈھیلا ڈھالا، سست، کاہل الوجود، لنگڑا، نرم، ڈھیلا، آرام طلب نکما، پژمردہ، نڈھال، سست رفتار، لچکدار ۔ رَخَاء: آرام، آسائش، خوشی، فروغ، اقبال مندی، فراخی، فراوانی،

امیری، امارت، خوشحالی، انصاف، قیمتوں کی گراوٹ۔

رُخاء: نرم و ہلکی ہوا۔ رَخَاوَۃ: نرمی، ڈھیلا پن، لنگڑاہٹ، بے پروائی، برائی، خرابی۔ رَخاوَۃ العُود: کردار کی کمزوری۔ رَخِی: کمزور، نڈھال، پژمردہ، ستایا ہوا، آرام سے، گرم اور آرام دہ۔ تَـرَاخٍ: لنگڑاہٹ، سستی، کاہلی، ڈھیلا پن، کمزوری، ناتوانی، تھکاوٹ، تھکن، آلکسی، کمی، تخفیف، قوت میں کمی، ستانا، چھوڑنا، کشادگی۔ اِرْتِخَاء: ڈھیلا ہونا، سست ہونا، الکسانا بے ترتیبی، ڈھیلا پن، کشادگی، مندا ہونا، سرد بازاری، بے پروائی، غفلت، کمی، گھٹاؤ، تخفیف، کٹوتی، نرمی، تسکین، قوت کی کمی، آسائش، آرام، بے پروائی، ڈھیلا پن، ستانا، تخفیف، رعایت، لنگڑاہٹ، کمزوری، ناتوانی، تکان، پژمردگی، سستی، آلکسی، ضعف، کمزوری، بے کیفی۔ اِسترخاء بمعنی ارتخاء۔ راخٍ: خمیدہ جھکتے جانے والا، افسردہ، مضمحل۔ مُتَرَاخٍ: لنگڑا، نرم، ڈھیلا ڈھالا، پُرشکن، کمزور، ناطاقت، پلپلا، بے جان، ضعیف، تھکا ماندہ، سست کاہل، مضمحل، بے ہمت، مردہ دل، بے کیف، بے رونق، بے پروا، غافل، آلکسی، آرام طلب۔

ردّ: ا۔ رَدَّ ـُ رَدًّا و مَـرَدًّا و مَـرْدُوْدًا و رِدِّيْدَى ہُ عن كذا: کو سے پھیرنا، واپس کرنا۔ ــ ہُ إلى بيته: کو اس کے گھر کی طرف لوٹانا۔ کہا جاتا ہے: ما يَرُدُّ هذا عليك شيئًا: یہ چیز تم کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچائے گی۔ ــ اليه جوابًا: کو جواب بھیجنا۔ ــ عليه الشيءَ: کسی کی کوئی چیز پھیر دینا، قبول نہ کرنا۔ ــ الشيءَ: چیز کو ایک حالت سے دوسری میں پھیر دینا۔ جیسے: فَرَدَّ شعورهُنَّ السود بيضًا: چنانچہ اس نے ان خواتین کے کالے بالوں کو سفید کرایا۔ ــ فلانًا: کو خطا کار ٹھہرانا۔ ــ الباب: دروازہ بند کرنا۔ ــ تَرْدَادًا القولَ: بات کو بار بار دہرانا۔ رَدَّدَ القولَ: بمعنی رَدَّ القول ہے اور باب تفعیل کثرت کے لئے ہے۔ رَادَّهُ في الكلام: سے بحث کرنا۔ ــ ہُ الشيءَ: کو چیز واپس کر دینا۔ تَرَدَّدَ: دہرایا جانا۔ ــ في الأمر: کسی امر میں متردد ہونا، شک و شبہ میں پڑنا۔ ــ اليه: کسی کے پاس بار بار آنا۔ ــ في الجواب: جواب میں زبان کا لڑکھڑانا۔ تَرَادَّ الماءُ: پانی کا بہاؤ کے مقام میں کسی روک کی وجہ سے پانی کا پیچھے ہٹنا۔ ــ في الجواب: جواب میں زبان کا لڑکھڑانا۔ ــ البيع: فسخ بیع پر آپس میں رضامند ہونا۔ اِرْتَدَّ الشيءَ: چیز کو واپس کرنا، کی واپسی چاہنا۔ ــ على اثره او عن طريقه: اپنے قدموں پر لوٹنا۔ ــ عن دينه: دین سے پھر جانا۔ ــ عن هبته: ہبہ کو واپس لے لینا، لوٹا لینا۔ ــ إلى الصواب: صواب کی طرف لوٹ جانا۔ اِسْتَرَدَّ الشيءَ: کی واپسی کرنے کا سوال کرنا، کی واپسی چاہنا۔ ــ الهبة: ہبہ کو واپس لوٹا دینا۔ ــ ہُ الشيءَ: کسی سے شے کی واپسی کا سوال کرنا، مطالبہ کرنا۔ الرَدّ (مص): زبان کی لڑکھڑاہٹ، پیداوار۔ کہا جاتا ہے: ضيعة كثيرة الرد: بہت پیداوار والی جاگیر۔ درهمٌ رَدٌّ: کھوٹا درہم۔ لاتعطني من ردود الدراهم: مجھے کھوٹے درہم نہ دو۔ شيءٌ رَدٌّ: ردی چیز۔ امرٌ رَدٌّ: طریقہ شریعت کے خلاف کام۔ الرِدّ: چیز کی نیکی یا سہارا۔ الرَدَّۃ: رَدّ کا اسم مرّہ، خوش روئی کے ساتھ کچھ بدروئی۔ کہا جاتا ہے: في وجهه رَدَّۃ: اس کے چہرہ میں کچھ بھونڈا پن ہے۔ الرِدَّۃ: ارتداد (کہا جاتا ہے: شربت الابل رِدَّۃً: اونٹوں نے دوسری بار پانی پیا)، تھوڑی کا چپکنا، پہاڑ کی گونج۔ الارَدّ: زیادہ نفع بخش۔ الرُدَّى: مطلقہ، طلاق دی ہوئی عورت۔ المِرَدّ من الرجال: بہت رد کرنے والا بہت حملے کرنے والا۔ الرَدَاد و الرِدَاد: واپسی۔ الرَدِيد: وہ بادل جو پانی برسا چکا ہو۔ التَردَاد: ردّ، تکرار۔ الرَادَّۃ و المَرَدَّۃ: فائدہ۔ کہا جاتا ہے: لا رادَّۃ او لا مَرَدَّۃ فيه: اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ المُرَدَّد: حیران۔ المَرْدُود (مفع): غیر مقبول۔ کہا جاتا ہے: رايٌ مَرْدُودٌ: نامنظور رائے۔ مَرْدُود او عائدُ آلةٍ ما (ف): مشین کی پیداواری طاقت کی اس طاقت کی طرف نسبت جو اسے خرچ کرتی ہے۔ المَرْدُودَۃ: مردود کا مؤنث، استرا۔

۲۔ اَرَدَّ البحرُ: سمندر کا موجزن ہونا۔ ــ الرجلُ: غصہ سے پھول جانا۔ ــ ت الشاۃ: بکری کا تھن والی ہونا۔ صفت: مُرِدّ۔ الرِدَۃ: بچہ جننے سے پہلے بکری کے تھنوں کا دودھ سے بھر جانا۔ المُرِدّ (فا) جمع مَرَادّ: غضبناک، ناراض، زیادہ پانی پی جانے والا اونٹ، عرصہ دراز تک سفر میں رہنے والا یا بغیر بیوی کے رہنے والا۔ المَرْدُود: عرصہ تک سفر میں رہنے والا یا دیر تک بغیر بیوی رہنے والا۔

ت رَدَّ ـُ رَدًّا: واپس بھیجنا۔ ــ ہ الى: کو کے پاس واپس لانا، لیجانا۔ ــ ہ إلى: کو اس کی جگہ لوٹانا، کو اس کی جگہ دوبارہ رکھنا، لگانا۔ ــ ہ: کو دھکیلنا، دور کرنا، پیچھے کو گرانا، پچھاڑنا، کی مخالفت کرنا، مزاحمت کرنا، کو طاقت سے روکنا، کا مقابلہ کرنا، کی مقاومت کرنا۔ ــ ہ (خواہش کی تکمیل وغیرہ) کو مسترد کرنا، (اس خواہش کو پورا کرنے) سے انکار کرنا۔ ــ حملہ کو روکنا، حملہ سے بچنا، وار خالی دینا، دفع کرنا، پیچھے ہٹانا۔ ــ تُهْمَةً: شک و شبہ رد کرنا۔ ــ ہ إلى: کو کسی کو واپس دینا، لوٹانا، واپس کرنا۔ ــ السلام: سلام کا جواب دینا۔ ــ على: کسی کو جواب دینا۔ ــ ہ (روشنی) منعکس کرنا، (آواز) کو لوٹانا۔ ــ على: کسی چیز کو غلط ثابت کرنا، باطل کرنا، جھٹلانا، غلط ٹھہرانا، (کسی بات) کی تردید کرنا، کو باطل ثابت کرنا۔ ــ ہ عن: کو سے روکنا، باز رکھنا، کو سے رو کے رکھنا، کو سے باز رہنے کو کہنا، کو کوئی کام نہ کرنے پر آمادہ کرنا۔ ــ ہ إلى: کو (اصل) سے منسوب کرنا، کی اصل یا وجہ معلوم کرنا، دریافت کرنا۔ ــ ہ على: کو کے پاس لانا، کو کے حوالے کرنا۔ ــ ہ ہ: کو دوبارہ بطور...... مقرر کرنا، بحال کرنا۔ رَدَّہُ حاكمًا: کو دوبارہ گورنر مقرر کرنا، بحال کرنا۔ رَدَّ الباب: دروازہ بند کرنا۔ رَدَّ جو: جواب دینا۔ ما يرد هذا عنيك شيئًا: یہ تمہاری قطعاً کوئی مدد نہیں کرے گا۔ لا یُرَدُّ: ناقابل تردید۔ رَدَّہُ على عَقِبَيْهِ جمع رَدَّهُم على أعْقَابِهِم کو اس جگہ واپس دھکیل دینا جہاں سے وہ آیا تھا۔ رَدَّ عَيْنَهُ عنه: اس نے اپنی/اس کی آنکھیں اس سے ہٹا دیں۔ رَدَّدَ ہ: کو دور رکھنا، ہٹانا، پھیرنا، موڑنا، کو نہ ہونے دینا، کو روکنا۔ ــ: دُہرانا (اکثر)۔ ــ ہ کو شروع کرنا۔ ــ ہ: کسی دھن میں پڑھنا، کو لحن سے پڑھنا۔ رَدَّدَ الصدى: گونج، صدائے بازگشت لوٹانا۔ رَدَّدَ النظر في: کسی چیز کی طرف بار بار دیکھنا۔ رَدَّدَ طَرْفَهُ بين: پہلے ایک اور پھر دوسرے کی طرف دیکھنا، کے مابین آنکھیں بھٹکنے دینا۔ تَـرَدَّدَ (آواز، گونج، صدائے بازگشت کا)، اٹھنا، گونج پیدا کرنا (چیخوں کا) بلند ہونا، (ہوا) کا بار بار پلٹنا۔ ــ على کے گھر آنا جانا (صلہ الی اس معنی میں شاذ و نادر استعمال ہوتا ہے)۔ ــ: لوٹنا، عود کرنا، بار بار واقع ہونا۔ ــ في: میں، کرنے میں پس و پیش کرنا، تامل کرنا، ہچکچانا، غیر آمادہ ہونا، بیدل ہونا، تذبذب کرنا، شک کرنا، شکی ہونا۔ تَرَدَّدَ على الألْسِنَة: (مسئلہ کا) اکثر زیر بحث آنا۔ اِرْتَدَّ: پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، پیچھے کی طرف جانا، پستی کی طرف جانا، زوال پذیر ہونا۔ ــ إلى کی طرف لوٹنا، واپس جانا، آنا، رجوع کرنا، کا سہارا لینا، پر اکتفا کرنا۔ ــ (کسی شخص یا چیز کو) چھوڑ جانا، غیر حاضر ہونا۔ ــ عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، کو چھوڑ دینا، سے دستبردار ہونا، قطع تعلق کرنا، کو اپنا ماننے سے انکار کرنا، کو چھوڑ بیٹھنا، سے چلے جانا، کو ترک کر دینا، (ایمان، اصول وغیرہ) سے الگ ہو جانا، کو چھوڑ دینا،

سے دغا کرنا، کا ساتھ چھوڑ دینا، کو بیوفائی سے چھوڑ دینا، سے مرتد ہو جانا، برگشتہ ہو جانا۔ اِرْتَدَّ علی عَقِبَیْهِ جمع اِرْتَدُّوا علی اَعْقَابِهِم: پیچھے ہٹنا، واپس مڑ جانا۔ اِسْتَرَدَّ ہ: کی واپسی کی درخواست کرنا یا حکم دینا۔ ـــ ہ اِلی: کو کے پاس واپس لانا، لیجانا۔ ـــ ہ: کو واپس لینا، کو دوبارہ پانا، لے لینا۔ ـــ یَدَہٗ: اپنا ہاتھ پیچھے ہٹانا۔ ـــ اِسْتِقَالَتَهٗ: اپنا استعفیٰ واپس لینا۔ ـــ ہ: (بنک وغیرہ سے) روپیہ نکلوانا۔ ـــ انفاسَہٗ: سانس روکنا، دم سادھنا۔ رَدّ جمع رُدُوْد: واپسی، بحالی، بازرسی، واگزاشت، واپس دی ہوئی رقم، خرچ کی ہوئی رقم کی ادائیگی، ادائیگی، بدلہ، کراہت، روکنا، ٹالنا، رد، تردید، تکذیب، انکار، استرداد، نامنظوری، جواب، رد، (روشنی کا) انعکاس، تردید، تغلیط۔ ـــ اِلی: کی طرف نسبت۔ رَدُّ الفِعْل: ردعمل۔ رَدُّ الاعتبار: آبادکاری۔ رَدًّا علی: کے جواب میں۔ اَخْذ و رَدّ: بحث، مباحثہ، جھگڑا، حجت، مناظرہ۔ رَدَّة: بدصورتی، بھونڈا پن، گونج، صدائے بازگشت، انعکاس، بھوسا، بورا، چوکر۔ رِدَّة: ارتداد، الحاد، مذہب سے برگشتگی۔ ـــ عن الاسلام: اسلام سے برگشتگی، ارتداد۔ اَرَدّ: زیادہ نفع بخش، زیادہ مفید، زیادہ منفعت بخش۔ ـــ (علی): (کیلئے)۔ مَرَدّ: حقیقت جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی جاسکے، اصل عنصر یا سبب، استرداد، ازالہ، گھن، کراہت، سنگت کی مناجات، بائبل کی تلاوت کے بعد کا مناجاتی نغمہ (مسیحیت میں)۔ کَانَ علی مَرَدِّ لِسانِهِ: ہمیشہ کسی کے لبوں پر ہونا، کسی کا باقاعدہ فقرہ ہونا۔ تَرْدَاد: اکثر دہرانا، اکثر آنا جانا، آمدورفت۔ تَرْدِیْد: دہرانا، بار بار دہرانا۔ تَرَدُّد: اکثر آنا جانا، آمدورفت، لہروں کی فی ثانیہ تعداد، تعدد امواج (frequency)، ہچکچاہٹ، پس و پیش، تذبذب، بے استقلالی، جھجک، بیدلی، غیر آمدگی۔ اِرْتِداد: پسپائی، پیچھے ہٹنا، حرکت معکوس، پیچھے کی طرف حرکت، مراجعت، انحطاط، زوال، تنزل، پستی کی طرف میلان، دستبرداری، قطع تعلق، بے وفائی، روگردانی، ساتھ چھوڑ دینا، مذہب سے برگشتگی، ارتداد، الحاد۔ ارتداد عن الاسلام: اسلام سے ارتداد، برگشتگی۔ کَارْتِدادِ الطرف: پلک جھپکتے میں، ابھی، ایک منٹ میں۔ اِسْتِرْدَاد: بازیابی، واپسی کا دعویٰ، پشت پناہی، حمایت، تائید، بازیافت، اصلاح، تلافی، الٹ پھیر، منسوخی، واپسی، کسی حساب بنک وغیرہ سے) روپیہ نکلوانا۔ مَرْدُوْد: پیداوار، نفع، منافع، آمدنی۔ مُرْتَدّ: ابن الوقت، غدار، مرتد۔

ردا: رَدَأَ ـ رَدْأً الحائِطَ: دیوار کو ٹیک لگانا۔ ـــ الرجلَ: کی مدد کرنا۔ اَرْدَأَ الحائِطَ: دیوار کو ٹیک لگانا۔ ـــ فلاناً: کسی کی پہلی حالت برقرار رکھنا۔ تَرَادَأَ القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ الرِدْء جمع اَرْدَاء: مددگار، مدد۔

۲۔ رَدَأَ ـ رَدْأً ہٗ بحجر: کو پتھر مارنا۔

۳۔ رَدُؤَ ـ رَدَاءَةً: خراب ہونا۔ صفت: رَدِیٌ جمع اَرْدِیَاء و اَرْدِنَاء۔ اَرْدَأَ: خراب کام کرنا یا بری چیز تک پہنچنا۔ ـــ ہٗ: کو خراب کرنا۔

۴۔ اَرْدَأَ السترَ: پردہ لٹکانا۔ ـــ فلاناً: کسی کو تسکین دینا۔

۵۔ اَرْدَأَ ہٗ علی مِائَةٍ: کسی کو سو سے زیادہ دینا۔ الرِدْء جمع اَرْدَاء: بوجھ کے ایک طرف کا بھاری حصہ جو جانور پر لادا جاتا ہے۔

○ رَدَأَ ـ رَدْأً ہ: دیوار کو ٹیک لگانا، سہارا دینا، کے ساتھ کھمبا کھڑا کرنا، تھامنا، سنبھالنا، تھونی لگانا۔ رِدْء جمع اَرْدَاء: سہارا، پشتہ، حمایت، پشت پناہ، مدد، مددگار۔ رَدُؤَ ـ رَدَاءَةً: خراب ہونا۔ تَرَدَّأَ: خراب ہو جانا، بگڑ جانا۔ رَدِیٌ جمع اَرْدِیَاء: خراب، برا، کمینہ، ذلیل، حقیر، خبیث، بدکار، شریر، بدطینت، کینہ پرور، عیبی، نااہل، پاپی، بداعمال، حرام زادہ، بد باطن، حاسد، بدخواہ۔ رَدِیُّ السُّمْعَةِ: بری شہرت والا۔ اَرْدَأ: زیادہ خراب، زیادہ برا، زیادہ بداعمال، زیادہ بدکار، زیادہ شریر۔ رَدَاءَة: خرابی، بدکاری، بداعمالی، فسق و فجور، بدطینتی، بدخصالی، بدباطنی، بدخواہی، حسد۔

ردب: تَرَدَّبَ ہٗ: سے مہربانی و ملاطفت کرنا۔ الرَدْب: غیر نافذہ گلی یا راستہ۔ الاِرْدَبّ جمع اَرَادِب: ۲۴ صاع کا بڑا پیمانہ۔ صاع ۴ اَمداد کا ہوتا ہے۔ نالی جس میں پانی بہتا ہے۔ الاِرْدَبَّة: بڑی پختہ اینٹ کی نالی، گندا نالہ، بدرو، موری، چوبچہ، چوبڑ۔

○ اِرْدَبّ: (آج کل عام طور پر اَرْدَبّ تلفظ کیا جاتا ہے)۔ جمع اَرَادِب: خشک اشیاء ماپنے کا ایک پیمانہ۔ اِرْدَبَّة: گڑھا جس میں گندہ پانی جمع رہتا ہے، گندی نالی، پاخانے کی موری۔

ردح: ۱۔ رَدَحَ ـ رَدْحًا: برقرار رہنا، ثابت قدم رہنا۔ الرَدْح: لمبا عرصہ، لمبی مدت۔ کہا جاتا ہے: اَقَامَ رَدْحًا من الدهر: وہ عرصہ دراز مقیم رہا۔ الرَدَاح جمع رُدُح: بڑا درخت، بڑا پیالہ، لشکر جرار۔ ـــ من الکباش: بڑی چکی والا دنبہ۔

۲۔ رَدَحَ ـ رَدْحًا الشیءَ: کو زمین پر ہموار پھیلانا۔ رَدَّحَ الشیءَ: کو پھیلا کر زمین کے ساتھ ہموار کرنا۔ الرُدْحَة: وسعت، چوڑی اور کھلی جگہ۔ المُرْدَح: وسعت، کشادگی، گنجائش۔

۳۔ رَدَحَ ـ رَدْحًا البیتَ: گھر کو گاڑھے گارے سے لیپنا۔ اَرْدَحَ البیتَ: گھر کو گاڑھے گارے سے لیپنا، گھر کے پچھلے حصہ کا پردہ لٹکانا۔ الرُدْحَة: گھر کے پچھلے حصہ کا پردہ۔ رُدْحَةُ الصائِد: وہ پتھر جو شکاری اپنے مکان کے اردگرد گاڑتا ہے۔ الرَدَاح جمع رُدُح: تاریکی۔ الرِداحَة و الرِداحة: بجو کے شکار کے لئے تیار کردہ مکان۔

۴۔ الرَدْح: ہلکا درد۔

○ رَدَح: طویل عرصہ یا مدت۔ رَدَحًا من الدهر: عرصہ دراز تک۔

ردخ: رَدَخَ ـ رَدْخًا راسَهٗ: کا سر توڑنا۔

ردس: ۱۔ رَدَسَ ـ رَدْسًا القومَ: لوگوں کو پتھر سے مارنا، پتھر مارنا۔ رَادَسَ ہٗ: ایک دوسرے کو پتھر سے مارنا، پتھر مارنا۔ المِرْدَاس و المِرْدَس: وہ پتھر جو کنویں میں یہ معلوم کرنے کے لئے ڈالا جائے کہ اس میں پانی ہے یا نہیں۔

۲۔ رَدَسَ ـ رَدْسًا الحائِطَ: دیوار کو گرانا، مسمار کرنا۔ ـــ الارضَ: زمین کو ہموار کرنا۔ ـــ بالشیء: کسی شے کو لیجانا۔ ـــ الحجر بالحجر: پتھر کو پتھر سے توڑنا۔ ـــ الرجُلَ: کو ذلیل کرنا۔ تَرَدَّسَ من مکانه: اپنی جگہ سے گر پڑنا۔ المِرْدَس و المِرْدَاس: پتھر توڑنے کا آلہ (ہتھوڑا)، سر۔

○ رَدَسَ ـ رَدْسًا ہ: کو مسلنا، پیسنا، کچلنا، مغلوب کرنا، پامال کرنا، (زمین) کو ہموار بیلنا، کو کچل کر ہموار کرنا۔

ردع: ۱۔ رَدَعَ ـ رَدْعًا ہٗ عن کذا: کو سے روکنا ہٹانا۔ تَرَادَعَ القومُ: ایک دوسرے کو باز رکھنا۔ اِرْتَدَعَ: رکنا، ہٹنا، باز رہنا۔ الرَدْع (مص): گردن۔ کہا جاتا ہے: رکب فلانٌ رَدْعَهٗ: وہ منع کرنے پر بھی باز نہ آیا۔ رکب البعیرُ رَدْعَهٗ: گر کر اونٹ کی گردن اس کے پیٹ میں گھس گئی۔ المِرْدَع: ناکام لوٹنے والا۔

۲۔ رَدَعَ ـ رَدْعًا السهمَ: تیر کے پھل کو بیٹھ جانے کے لئے زمین پر مارنا۔ کہا جاتا ہے: احمله فردع به الارضَ: اس نے اسے زمین پر دے مارا، پچھاڑ دیا۔ رُدِعَ بہ: پچھاڑا جانا۔ اِرْتَدَعَ السهمُ: تیر کا نشانہ پر لگ کر ٹوٹ جانا۔ الرَدِیع: پچھاڑا ہوا۔ سهمٌ رَدِیع و مِرْدَع: وہ تیر جس کا پھل گر گیا ہو۔

۳۔ رَدَعَ ـ رَدْعًا ہٗ بالشیء: کو کسی شے سے تھیڑنا۔ رُدِعَ رَدْعَةً: سہم جانا اور چہرے کا رنگ زرد پڑ جانا۔ رَدَّعَ ہٗ بالزعفران: کو زعفران میں لت پت کرنا۔ تَرَدَّعَ: لت پت ہونا، لتھڑنا۔ اِرْتَدَعَ بالطیب:

خوشبو میں لت پت ہونا۔ الرَّدْعُ (ن): زعفران، جسم میں خوشبو کا اثر۔ قمیصٌ رادِعٌ: خوشبو کے اثر والی قمیص۔ الرُّداع: جسم میں خوشبو کا اثر۔ الرِداع: کیچڑ، پانی۔ ثوبٌ رَدِیع: زعفران میں رنگا ہوا کپڑا۔ المِرْدَع: وہ شخص جس کے جسم میں خوشبو کا اثر ہو۔

۲۔ الرُّداع: بیماری کا دوبارہ ظہور۔ المِرْدَع: بست، پستہ قد، پست قد۔

○ رَدَعَ ـ رَدْعًا هُ عن: کو سے دور رکھنا، روکنا، باز رکھنا۔ اِرْتَدَعَ عن: سے دور رکھا جانا، سے روکا جانا، باز رکھا جانا۔ رَادِع: باز رکھنے والا، سدراہ ہونے والا، جمع رَوَادِع: مانع، سدِ راہ، باز رکھنے والا، رکاوٹ، مزاحمت، پابندی، قید، بندش، روک، روک تھام، دبا ہوا جذبہ۔

ردغ ۱۔ رَدَغَ ـ رَدْغًا تِ السماءُ: آسمان کا زمین کو صرف تر کرنے کے لائق پانی برسنا۔ اَرْدَغَ المکانُ: جگہ کا بہت کیچڑ والی ہونا۔ صفت: رَدِغ۔ اِرْتَدَغَ: کیچڑ میں گرنا۔ الرَّدْغ و الرِّداغ: کیچڑ، گارا۔ الرَّدْغَة والرَّدَغَة جمع رَدْغ و رَدَغ و رِداغ و رَدَغات: کیچڑ، سخت گارا، سخت کیچڑ۔ ماءٌ رَدَغَة: مٹی ملا پانی۔

۲۔ رَدَغَ ـ رَدْغًا به الارضَ: کو زمین پر گرانا۔ الرَّدِیغ: پچھاڑا ہوا۔

۳۔ الرَّدِیغ: احمق، بیوقوف۔ المَرْدَغَة جمع مَرَادِغ: گلے اور ہنسلی کی ہڈی کے درمیان کا حصہ، خوش منظر باغ۔

○ رَدْغَة: گارا، دلدل، پتلی کیچڑ، کیچڑ۔

ردف ۱۔ رَدَفَ ـ رَدْفًا هُ: کے پیچھے ہونا۔ ـــ له: کے پیچھے سوار ہونا، پیچھے بیٹھنے والا ہونا۔ رَدِفَ ـ رَدْفًا له: کے پیچھے ہونا، کے پیچھے سوار ہونا، کے پیچھے بیٹھنے والا ہونا۔ رَادَفَ هُ: کسی سوار کے پیچھے سوار ہونا۔ کہا جاتا ہے: دابّةٌ لا تُرَادِف: وہ جانور جو دوسرے سوار کو نہ بٹھائے۔ اَرْدَفَ: پے در پے ہونا۔ ـــ هُ: کو اپنے ساتھ سوار کرنا۔ کہا جاتا ہے: دابّةٌ لا تُرْدِفُ: وہ جانور جو دوسرے سوار کو بیٹھنے نہ دے۔ ـ له: کے بعد آنا۔ ـ الشیءَ بالشیءِ و علیه: کسی چیز کو کسی چیز کے پیچھے لگانا۔ آپ کہتے ہیں: اَرْدَفْتُ خَیْلًا علی خَیْلٍ لِی: میں نے گھوڑوں کے پیچھے اپنے گھوڑے لگا لئے۔ تَرَدَّفَ هُ: کے پیچھے سوار ہونا۔ تَرَادَفَا: ایک دوسرے کی پیروی کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہونا۔ ـــ تِ الکلماتُ: کلمات کا معنی میں آپس میں مشابہ ہونا۔ اِرْتَدَفَ هُ: کے پیچھے ہونا، کو اپنے پیچھے سوار کرنا۔ ـ العدوَّ: دشمن کو پیچھے سے پکڑنا۔ اِسْتَرْدَفَ هُ: کسی سے پیچھے سوار ہونے کے لئے کہنا۔ الرِدْف جمع اَرْداف: ہیرو، سوار کے پیچھے سوار، کام کا نتیجہ، ہر شے کا آخر۔ (فلك): النسر الواقع (ایک ستارے کا نام) کے قریب ایک ستارے کا نام۔ ـ فی الجاهلیة: زمانہ جاہلیت میں بادشاہ کا وہ ہم جلیس جو اس کے بعد پیتا اور لڑائی میں اس کا قائم مقام ہوتا تھا اور بادشاہ کی فوج سے واپسی پر مال غنیمت کا چوتھائی حصہ لیتا تھا۔ ـ من الدابّة: جانور کا پچھلا حصہ۔ الرِدْفان: رات اور دن۔ الرَّدِیف جمع رِداف و رُدَفاء: سوار کے پیچھے دوسرا سوار، النسر الواقع (ایک ستارے کا نام) کے قریب ایک ستارے کا نام۔ (ا ع) فوجی جسے ضرورت کے وقت تک فارغ رکھا جائے۔ الرِداف من الدابّة: جانور کا پچھلا حصہ۔ الرِدافة: بادشاہ کی نیابت۔ الرُّدافی: مددگار افراد۔ کہا جاتا ہے: جاءُوا رُدافی: وہ یکے بعد دیگرے آئے۔ الرَوادِف: سرینیں، پیچھے رہنے والی قوم۔ (واحد الرادِفة والرادُوف): کھجور کے پودے جو کھجور کے درختوں پر ہی لگ جائیں۔ کوہان کے پچھلے حصہ میں تہ بتہ چربی۔

۲۔ رَدَفَ ـ رَدْفًا الامرُ القومَ: قوم کو کوئی معاملہ اچانک پیش آنا۔ اَرْدَفَ الامرُ القومَ: قوم کو کوئی معاملہ اچانک درپیش ہونا۔

○ رَدَفَ ـ رَدْفًا و رَدِفَ ـ رَدْفًا ہ/ ه: کے بعد آنا یا فوراً بعد آنا، کے پیچھے ہونا یا آنا، کا جانشین ہونا۔ رَادَفَ ہ: کسی جانور پر کسی کے پیچھے سوار ہونا، کسی کا قائم مقام ہونا۔ ـــ ہ/ ه کی جگہ لینا یا لگانا۔ ـــ ه: کے مترادف ہونا۔ اَرْدَفَ ہ کو کسی سوار کے پیچھے بٹھانا۔ ـــ ه ب: کے پیچھے کوئی دوسری چیز لانا، کو سے مکمل کرنا۔ تَرَادَفَ: ایک دوسرے کے بعد آنا یا یکے بعد دیگرے آنا، تہ بتہ جمنا، کا ڈھیر لگنا، ایک قطار بنانا۔ ـــ علی: کے پاس مل کر جانا، کے پاس بھیڑ لگنا۔ ـــ: مترادف ہونا۔ رِدْف جمع اَرْداف: ایک جانور پر سوار کے پیچھے دوسرا سوار، بعد میں آنے والا، بعد کا، اگلا، چوتڑ، سرین، پٹھا، پڑا، کولھا، جانور کا پٹھا۔ الرِدْفان: دن اور رات۔ رِداف: جانور کا پٹھا۔ رَدِیف: پچھلا آدمی، صف میں دوسرا (سابق ترکی سلطنت میں) فاضل فوج، ریزرو فوج۔ رَدِیفَة: ردیف کا مؤنث۔ تَرَادُف: تسلسل، تواتر، سلسلہ، جانشینی، دوسرے کی جگہ لینا، مترادف ہونا، ہم معنی ہونا۔ مُرَادِف: مترادف یا ہم معنی لفظ، ہم معنی، مترادف، معنی میں مطابق، ملتا جلتا، مشابہ، ہم شکل۔ ـــ ل کا ہم معنی۔ مُتَرادِف: ہم معنی، مترادف۔ مُتَرادِفات: مترادف یا ہم معنی الفاظ۔

ردك: رَوْدَكَ هُ: کو آراستہ کرنا، خوبصورت کرنا۔ الرَوْدَك: خوش رو (لڑکا) مؤنث رَوْدَكَة۔

ردم ۱۔ رَدَمَ ـ رَدْمًا الثُلْمَةَ او البابَ: رخنہ یا دروازہ بند کرنا۔ ـــ رَدْمًا تِ الشجرةُ: درخت کا خشک ہونے کے بعد سبزہ ہرا ہونا۔ رُدِمَ الشیءُ: ہرا ہونا۔ رَدَّمَ الثوبَ: کپڑے میں پیوند لگانا۔ تَرَدَّمَ ثوبَهُ: کے کپڑے میں پیوند لگانا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ و پرانا ہونا۔ الرَدْم (مص): گری ہوئی دیوار کا ملبہ۔ ـــ والرُدام و المِرْدام: بے خیر چیز۔ الرَدَم جمع رُدُوم: روک، بندش۔ الرَدِیم جمع رُدُم من الثیاب: پرانا کپڑا۔ ثوبٌ مُرَدَّمٌ و مُرْتَدَم: پرانا پیوند لگا کپڑا۔ المُتَرَدَّم: وہ جگہ جہاں پیوند لگایا جائے۔ کہتے ہیں: هل غادر الشعراء من مُتَرَدَّمٍ: کیا پہلے شعراء نے کلام میں کوئی (رخنہ) کی و خامی چھوڑی ہے کہ پچھلے اس کو پورا کر دیں۔ یعنی نہیں ہر پہلو پر وہ کہہ چکے ہیں اب مجال سخن نہیں۔

۲۔ رَدَمَ ـ رَدْمًا القوسَ: کھینچ کر کمان سے آواز نکالنا۔ ـــ البعیرَ: اونٹ کے کچھ چھونا۔ الرَدْم (مص): کمان کی آواز۔ الأَرْدَم جمع اَرْدَمُون: ماہر ملاح۔

۳۔ رَدَمَ ـ رُدُمًا السحابُ: بادل کا مسلسل چھایا رہنا۔ ـ تِ الحُمّٰی علیه: پر بخار کا ہمیشہ چڑھا رہنا اور نہ اترنا۔ اَرْدَمَ السحابُ: بادل کا مسلسل چھایا رہنا۔ ـ ت الحُمّٰی علیه: پر بخار کا ہمیشہ چڑھا رہنا اور نہ اترنا۔ تَرَدَّمَ تِ الخصومةُ: دشمنی کا طوالت پکڑنا۔

۴۔ رَدَمَ ـ رُدُمًا الشیءُ: چیز کا بہنا۔

۵۔ رَدَّمَ ت الناقةُ علی ولدها: اونٹنی کا اپنے بچہ پر مہربان ہونا۔ تَرَدَّمَ ت الناقةُ علی ولدها: اونٹنی کا اپنے بچہ پر مہربان ہونا۔

۶۔ تَرَدَّمَ هُ: کسی کے پیچھے لگ کر اس کی حقیقت کا پتہ لگانا۔ ـــ القومُ الارضَ: قوم کا زمین کی پیداوار کو ایک بار پھر کھا لینا۔

○ رَدَمَ ـ رَدْمًا ه: گڑھا، تالاب وغیرہ) کو مٹی سے بھر دینا۔ رَدَّمَ: مرمت کرنا، جڑنا۔ اَرْدَمَ علی: کو چھوڑ کر نہ جانا، کسی سے چمٹا رہنا (بیماری کا)۔ تَرَدَّمَ: مرمت کیا جانا۔ ـ ه کی مرمت کرنا۔ ـ استعمال شدہ ہونا، پھٹا ہوا ہونا۔ رَدْم: دلدل، تالاب وغیرہ کو مٹی سے بھرنا، روڑے، ملبہ، بند، پشتہ۔ رَدِیم: گھسا پٹا، پھٹا پرانا، فرسودہ، تار تار (کپڑا)۔

ردن ۱۔ رَدَنَ ـ رَدْنًا الاشیاءَ: چیز کو ترتیب سے اوپر نیچے

چنانا ــ ت المراۃ: عورت کا تکلے پر کاتنا۔اِرتَدَنَت المراۃُ: عورت کا تکلہ بنانا۔الرَدَن جمع اَرْدَان: کاتنا، ریشم۔الوَادِن (ن): زعفران۔الاَرْدَان: ایک سرخ رنگ ریشم۔المِردَن: تکلا۔خیط مَردُونٌ: ملایا ہوا ڈورا۔احمرُ رَادِنِی: زردی ملا سرخ۔

۲۔رَدَنَ -رَدْناً النارَ: آگ جلانا۔

۳۔رَدِنَ -رَدَناً الجلدُ: کھال پر جھریاں پڑنا، سکڑنا۔

۴۔رَدَنَ و اَرْدَنَ القمیصَ: قمیص میں آستین لگانا۔الرُدْن جمع اَرْدَان: آستین کی جڑ، آستین کا کشادہ حصہ، عرب اس میں درہم و دینار رکھا کرتے تھے اسی سے محاورہ ہے۔ثَقُلَ رُدْنُہٗ: وہ مالدار ہو گیا۔

۵۔اَرْدَنَ ت الحُمّٰی: بخار طویل ہو جانا۔

۶۔الرَدَن: ہتھیاروں کے ایک دوسرے پر گرنے کی آواز۔

المُردِن: تاریک۔عَرَقٌ مُردِنٌ: بدبودار پسینہ۔

الرُدَیْنِی: نیزہ، ردینہ کی طرف منسوب ہے۔یہ ایک عورت تھی جو اچھے نیزے بنایا کرتی تھی۔

○ رَدَنَ -رَدْناً: کاتنا، (بلی کا) کا خرخر کرنا۔علی: سے شکایت یا احتجاج کرنا۔رُدْن جمع اَرْدَان: آستین۔ رُدَیْنِی: نیزہ (ابتدا میں بہتر قسم کے نیزہ کو کہا جاتا تھا)۔مِردَان جمع مَرَادِن: تکلا۔

○ رَدَنْجوت: فراک کوٹ (مردوں کا لمبا کوٹ) شہزادہ البرٹ۔

رده: رَدَہَ -رَدْھاً فلاناً بحجر: کو پتھر مارنا۔ــــ الرجلُ: بہادری یا سخاوت یا کسی اور خوبی کے باعث قوم پر سرداری کرنا۔ــــ البیتَ: گھر کو بڑا کرنا۔الرَدْھۃ جمع رَدْہ و رِدَاہ و رِدَہ: سب سے بڑا گھر، گھر کی سب سے زیادہ کشادہ جگہ، پہاڑ یا چٹان میں گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے۔

○ رَدْھَۃ: ہال، بڑا کمرا، بیٹھک، دیوان خانہ، ڈیوڑھی، پیش دالان۔رَدْھَۃُ الاستقبال: استقبالیہ ہال، دیوان خانہ، ملاقات کا کمرہ، ڈرائنگ روم۔رَدْھَۃُ المُحاضرات: لیکچر روم۔

ردی: ا۔رَدَی -رَدْیاً و رَدَیَاناً الشیءَ: چیز کو توڑنا۔ــــ ہٗ: کو دھکا دینا۔ــــ ہٗ بحجر: کو پتھر مارنا۔ــــ ت الفرسُ: گھوڑے کا زمین پر سُم مارنا۔رَادَی مُرَادَاۃً عن القوم: کسی قوم کی جانب سے دوسروں پر پتھر مارنا۔اَرْدَی الفرسَ: گھوڑے کو سُم مارنے دینا۔ الرَدَاۃ جمع رَدًی: چٹان۔المِردَی جمع مَرَادٍ: پتھر توڑنے کا پتھر۔المَرَادِی: گھوڑوں یا اونٹوں کی ٹانگیں، گھوڑے جو زمین پر سُم ماریں۔المِرداۃ جمع مَرَادٍ: پتھر توڑنے کا پتھر لڑائی کا چکر۔طَحونٌ:

مرداۃٌ طحونٌ: جنگ کی چکی نے اس کو پیس ڈالا۔ المُرَدِّیّ جمع مَرَادِی: ملاح کا چپو۔

۲۔رَدَی -رَدْیاً و رَدَیَاناً فی البئر: کنویں میں گرنا۔ــــ فلانٌ: اونچے پہاڑ پر سے گرنا۔رَدِیَ -رَدًی: گرنا، ہلاک ہونا۔رَدَّی ہٗ فی البئر: کو کنویں میں گرانا۔ــــ الرجلَ: کو ہلاک کرنا۔اَرْدَی ہٗ فی البئر: کو کنویں میں گرانا۔ــــ الرجلَ: کو ہلاک کرنا۔تَرَدَّی فی البئر: کنویں میں گرنا۔الرَدِی: ہلاک ہونے والا۔ رجل رَدٍ: ہلاک ہونے والا مرد۔

۳۔رَدَی -رَدْیاً و رَدَیَاناً ت الجاریۃُ: لڑکی کا ایک پاؤں پر اچک اچک کر کھیلتے ہوئے چلنا۔اِرْتَدَی ت الجاریۃُ: لڑکی کا ایک پاؤں پر اچک اچک کر کھیلتے ہوئے چلنا۔

۴۔رَدَی -رَدْیاً و رَدَیَاناً علی الخمسین من عمرہ: عمر میں پچاس سال سے زائد ہونا۔اَرْدَی علی الخمسین: پچاس سے زائد ہونا۔ــــ مالُہٗ: کا مال دار ہونا۔

۵۔رَدَی -رَدْیاً و رَدَیَاناً فلانٌ: جانا، آپ کہتے ہیں: ما ادری این رَدَی: میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔

۶۔رَدَّی الرجلَ: کو چادر اوڑھانا۔تَرَدَّی: چادر اوڑھنا۔ اِرْتَدَی: چادر اوڑھنا، تلوار لٹکانا۔الرِداء جمع اَرْدِیَۃ: چادر، لبادہ، جبہ۔(کہا جاتا ہے ھو غَمْرُ الرِداءِ: وہ بہت داد و دہش والا ہے۔خفیفُ الرِداء: کم قرض اور کم عیال والا)، تلوار کی پٹی، تلوار، کمان، عقل، نادانی، باعث زینت، باعث عیب۔ رِداءُ الشمس: سورج کی روشنی۔ــــ الشباب: جوانی کی بہار، نکھار۔الرِداءَۃ: پوشش، اوڑھنے کا کپڑا۔ المِرْدَاۃ و المِردَی جمع مَرَادٍ: بڑی چادر، ازار۔

۷۔رَادَی مراداۃً الرجلَ: کو پھسلانا، مدارات سے پیش آنا۔

○ رَدِیَ -رَدًی: ہلاک ہونا، تباہ ہونا۔رَدَّی ہٗ: کو زمین پر گرانا، پٹخنا، کو زوال پذیر کرنا، زوال سے دوچار کرنا۔ اَرْدَی ہٗ: کو زمین پر گرانا، پٹخنا، کو زوال آشنا کرنا، کو تباہ و برباد کرنا، کو مار گرانا، کو قتل کرنا۔اَرْدَاہ قتیلاً: کو مہلک ضرب سے مار گرانا۔تَرَدَّی: گرنا، الٹ کر گرنا، زوال پذیر ہونا، کم ہونا، بد سے بدتر ہونا، بگڑنا، ابتر ہونا، معیار سے گرنا۔ــــ ب: (کچھ) پہننا، (کپڑا) پہننا۔اِرْتَدَی ہٗ: (لباس، ٹوپی، ہیٹ، پگڑی وغیرہ) پہننا، (میں) ملبوس ہونا، (کو) پہنے ہوئے ہونا۔اِرْتَدَی ملابسَہٗ: اپنے کپڑے پہننا، کپڑے پہننا۔رَدًی: تباہی، بربادی۔رِداء جمع اَرْدِیَۃ: چادر، لبادہ، چوغہ، چغا،

عبا، عورتوں کا لباس، فراک، گون، پوشاک، لباس، جوڑا۔رِداءُ المساء: شام کا گون۔مُتَرَدٍّ: ملبوس، لباس پہنے ہوئے۔

رذ: رَذَّ -رَذّاً ت السماءُ و اَرَذَّت السماءُ: آسمان کا پھوار برسانا۔ــــ ت القِربۃُ: مشک کا پانی بہنا۔ الرَذاذ: پھوار۔

○ رَذَّتِ السماءُ -رَذاذاً و اَرَذَّتِ السماء: بوندا باندی ہونا، ترشح ہونا، پھوار پڑنا۔رَذاذ: بوندا باندی، پھوار۔

رذل: ا۔رَذُلَ -و رَذِلَ -رَذَالَۃً و رُذُولَۃً: حقارت کے قابل ہونا، قبیح ہونا، برا ہونا، صفت رَذْل جمع اَرْذَال و رُذَال و رُذُول و رَذْلُون و رذیل جمع رُذَلاء و رِذال۔ رَذَلَ -رَذْلاً ہٗ: کو رذیل کرنا۔ اَرْذَلَ: برا فعل کرنا، کمینوں کا ساتھی ہونا۔ــــ ہٗ: کو رذیل و حقیر کرنا۔الرُذال: رذیل، حقیر، کمینہ۔الاَرْذَل جمع اَراذِل و اَرْذَلُون: اسم تفضیل: زیادہ گھٹیا، زیادہ ردی۔المُرْذِل: رذیل ساتھیوں اور گھٹیا جانوروں والا۔الرَذِیلۃ جمع رَذائِل: برائی، کمینہ پن۔

۳۔رَذَلَ -رَذْلاً ہٗ: کو ناپسند کرنا، برا سمجھنا۔اَرْذَلَ ہٗ: کو برا سمجھنا، رد کرنا۔ــــ الدراھِمَ: درہموں کو کھوٹا بتا کر واپس کر دینا۔اِسْتَرْذَلَ ہٗ: کو حقیر سمجھنا۔الاَرْذَل جمع اَراذِل و اَرْذَلُون: ردی۔الرُذال و الرُذالۃ: چیز کا ردی و ناکارہ حصہ۔رُذالۃُ کلِّ شیءٍ: ہر چیز کا ناقص حصہ۔

○ رَذِلَ -و رَذُلَ -رَذالۃً: کمینہ ہونا، گھٹیا ہونا، پست ہونا، رذیل ہونا، خراب ہونا، گندا ہونا، پاجی ہونا، حقیر ہونا، فرومایہ ہونا، قابل نفرت ہونا، خوار ہونا۔رَذَلَ -رَذْلاً ہ/ہٗ: کو مسترد کرنا، ترک کر دینا، بے کار سمجھ کر پھینک دینا، برطرف کرنا، ہٹانا، کو اپنانے سے انکار کرنا، سے قطع تعلق کرنا، کو ماننے یا پہچاننے سے انکار کر دینا، سے بے تعلقی ظاہر کرنا، سے نفرت کرنا، کو حقیر جاننا، کو حقارت سے دیکھنا، توجہ کے لائق نہ سمجھنا، کو ناپسند کرنا، کو گھٹیا یا برا جاننا۔اَرْذَلَ ہ/ہٗ: کو مسترد کرنا، ترک کرنا، بے کار سمجھ کر پھینک دینا، کو اپنانے سے انکار کرنا، سے قطع تعلق کرنا، کو نہ ماننا، کو ماننے یا پہچاننے سے انکار کر دینا، سے بے تعلقی ظاہر کرنا۔ اِسْتَرْذَلَ ہ/ہٗ: کو نیچا، چھوٹا یا پست سمجھنا، فرومایہ، ذلیل یا کمینہ سمجھنا۔رَذْل: انکار، نامقبولیت، ناپسندیدگی، نامنظوری، قطع تعلق، دستبرداری۔استرداد۔(جمع رُذُول و اَرْذال): نیچا، کمینہ، برا، فرومایہ، رذیل، سفلہ، حقارت آمیز، قابل مذمت، لائق مذمت۔

رَذِیل جمع رُذَلاء: نیچا، کمینہ، ذلیل، برا، حقیر، ذلیل، پنچ، خسیس، گھٹیا، خبیث، خراب، سفلہ، پاجی، قابل نفرت، خوار، بگڑا ہوا۔ رَذَالَۃ: گراوٹ، پستی، کمینگی، برائی، بدکاری، سیاہ کاری، بدچلنی، بگاڑ، کھوٹ۔ رَذِیْلَۃ جمع رَذَائِل: بدچلنی، بگاڑ، کھوٹ، سیاہ کاری، عیب، نقص، خامی، بری عادت۔ مَرْذُوْل: بگڑا ہوا، فرومایہ، پاجی، کمینہ، حقیر، ذلیل، خبیث، برا، بداعمال، بدکار، شریر، مضر، ناکارہ، خراب، نقصان رساں۔

ردم ۱۔ رَذَمَ ـُـ رَذَمًا و رَذَمَانًا و رَذِمَ ـَـ رَذَمًا الإناءُ: برتن کا بھر کر چھلک جانا، صفت: رَذِم۔ اَرْذَمَ الإناءَ: برتن بھر کر چھلک جانا۔ ــ علی الخمسین من عمرہ: عمر میں پچاس سال سے زائد ہونا۔ الرذوم جمع رُذُم و رذم: چھلکتا ہوا لبریز پیالہ، بر بہنے والی چیز۔

۲۔ الرَذَم و الرُذَام: بے مروت، کمزور شخص۔ الرَذَم و الرِذمان من الناس: بکھری ہوئی جماعت، چھوٹی جماعت۔ کہا جاتا ہے: رأیتُ رَذَمًا من الناس: میں نے لوگوں کی ایک بکھری ہوئی جماعت دیکھی۔ کان فی رِذمان من الناس: وہ ایک چھوٹی جماعت میں تھا۔

رذی ۱۔ رَذِیَ ـَـ رَذَاوَۃً: بیماری سے نڈھال ہونا، صفت: رَذِی جمع رُذَاۃ مونث: رَذِیَّۃ۔ اَرْذَی ہٗ: کو نڈھال کر دینا۔ اُرْذِیَ: بیماری سے نڈھال ہونا۔ الرَذِیّ: کمزور، لاغر، دبلا۔

۲۔ اَرْذَی ہٗ: کو پھینکنا، صفت مفعولی: مُرْذًی۔

رز ۱۔ رَزَّ ـُـ رَزًّا ت الجرادۃُ: ٹڈی کا انڈے دینے کے لئے دم کو زمین میں چھونا۔ رَزَّہٗ: کو نیزہ مارنا۔ السہمَ فی الحائط: تیر کو دیوار میں گاڑنا۔ ــ البابَ: دروازہ میں کنڈی لگانا۔ اَرَزَّتِ الجرادۃُ: ٹڈی کا انڈے دینے کے لئے دم کو زمین میں چھونا۔ اِرْتَزَّ السہمُ فی الحائط: تیر کا دیوار میں گڑ جانا۔ ــ البخیلُ عند المسألۃ: سوال کے وقت بخیل کا کنجوسی کرنا۔ الرِزَّۃ جمع رُزَز و رِزَاز و رَزَّات: لوہے کا کنڈا جس میں تالا لگایا جاتا ہے، کھونٹی جس کو گھوڑے وغیرہ باندھنے کے لئے زمین یا دیوار میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ (طب) پیٹھ کا درد۔ الارْزِیز: نشانہ میں پیوستہ نیزہ۔

۲۔ رَزَّ ـِـ رَزًّا ت السماءُ: آسمان کا گرجنا۔ الرِزّ و الرِزِیزَی: بادل کی گرج، دور کی آواز، پیٹ کی گڑگڑاہٹ، آواز۔ الرَزَّاز: سیسہ۔ رَزِیزُ الرعد: گرج کی آواز۔ الارزیز: کپکپی، لرزہ، چھوٹے اولے، لمبی آواز والا ٹیلیفون۔

۳۔ رَزَّزَ الورقَ: کاغذ پر پالش کرنا۔ ــ الامرَ: کسی امر کو ٹھیک کرنا۔

۴۔ الرُزّ و الارُزّ (یونانی لفظ): چاول۔ الرَزِیز (ن) رنگ میں کام آنے والی ایک قسم کی گھاس۔ الرَزَّاز: چاول بیچنے والا۔ المُرَزَّز من الطعام: چاولوں سے تیار کیا ہوا کھانا۔ المَرَزَّۃ: چاول اُگنے کی جگہ یا وہ جگہ جہاں چاول کاشت کیا جائے یا بکثرت پیدا ہو۔

○ رُزّ و اُرْز: چاول۔ رَزَّ ـُـ رَزًّا ہٗ: کو ٹھونکنا، میں ڈالنا، داخل کرنا۔ رَزَّزَ ہٗ: کو پالش کرنا، صیقل کرنا، جلا دینا۔ اَرْزَّ: ٹیلیفون کرنا۔ رَزَّۃ جمع رَزَّات: کنڈا، کنڈے کا پیچ۔ اِرْزِیز: ٹیلیفون۔

رزا: رَزَأَ ـَـ رَزْءًا و رُزْءًا و مَرْزِئَۃً الرجلَ مالَہٗ: سے کچھ حاصل کرنا، کو کم کرنا، کم دینا۔ ــ الرجلَ: سے کچھ بھلائی حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے: ھو یُرْزَأُ: وہ سخی ہے، لوگوں کو اس کا فیض پہنچتا ہے۔ رَزِیَ ـَـ رُزْءًا الرجلَ: سے کچھ خیر و بھلائی حاصل کرنا۔ اِرْتَزَأَ الرجلَ: سے کچھ بھلائی حاصل کرنا۔ ــ ہٗ الشیءَ: کو کم چیز دینا۔ ــ الشیءُ: کم ہونا۔ الرُزْء جمع اَرْزَاء و الرَزِیئَۃ و الرَزِیَّۃ جمع رَزَایَا: بڑی مصیبت۔ المُرَزَّأ جمع مُرَزَّؤُوْن: کریم، فیاض، سخی۔ المُرَزَّؤُوْن: وہ قوم جس کے چیدہ اشخاص مر چکے ہوں۔ المَرْزِئَۃ: بڑی مصیبت۔

○ رَزَأَ ـَـ رَزْءًا ہٗ /فی: کو سے محروم کرنا۔ رُزِیَٔ نقصان اٹھانا۔ ــ ب: کو گنوانا، کھونا، کھو دینا، گم کرنا یا گم کر دینا، سے دکھ، تکلیف پہنچنا۔ رُزْء جمع اَرْزَاء: بھاری نقصان، سخت ضرر، مصیبت، آفت، تباہی۔ رَزِیْئَۃ و رَزِیَّۃ جمع رَزَایَا: بھاری نقصان، سخت ضرر و صدمہ، مصیبت، آفت، تباہی۔

رزب: رَزَبَ ـُـ رَزْبًا ہٗ: سے چمٹے رہنا۔ الاِرْزَبّ: چھوٹا، ضخیم۔ المرزاب جمع مَرَازِیب: پرنالہ، لمبی کشتی۔ المَرْزُبَۃ: قیادت، رہنمائی، میرمجلسی، عہدۂ صدارت، منصب و عہدہ صدارت، صوبیداری کا عہدہ۔ المَرْزَبَۃ و المِرْزَبَّۃ جمع مَرَازِب و الاِرْزَبَّۃ: لوہے کی سلاخ۔ المَرْزُبَان جمع مَرَازِبَۃ: اہل فارس کا رئیس یا صوبیدار۔

○ رَزَبَ ـُـ رَزْبًا ہٗ: سے چمٹے رہنا، کو نہ چھوڑنا، کو ترک کرنے سے انکار کرنا۔ مِرْزَبَّۃ جمع مَرَازِب: آہنی سلاخ۔ مِرْزَاب جمع مَرَازِیب: پرنالہ، منہ کی شکل کا پرنالہ، چھت کی نال کا پرنالہ۔

رزح ۱۔ رَزَحَ ـَـ رَزْحًا و رُزُوْحًا و رَزَاحًا الجملُ: اونٹ کا لاغری یا تھکن کی وجہ سے زمین پر گر کر دراز ہو جانا اور اٹھ نہ سکنا، صفت: رازح جمع رُزَّح ــ الرجلُ: کمزوری کی وجہ سے ہاتھ سے چیز نکل جانا۔ ــ العنبُ: گرے ہوئے انگور چننا۔ ــ و تَرَازَحَت حالُہٗ: بدحال ہونا۔ عام لوگ کہتے ہیں: رَزَحَ المریضُ: بیمار کا کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکنا اور اسی طرح پیدل چلنے والے کا تھکاوٹ کی وجہ سے اٹھ نہ سکنا۔ رَزَّحَ الناقۃَ: اونٹنی کو لاغر کرنا۔ اَرْزَحَ العنبَ: گرے ہوئے انگور چننا۔ اِبِلٌ رُزَّحٌ و رَزْحَی و رَزَاحَی و رَوَازِحُ: کمزور لاغر اونٹ۔ المَرْزَح: ہموار زمین، دور کی مسافت۔ المِرْزَح و المِرْزَحَۃ جمع مَرَازِح: انگور کی بیل زمین سے اونچی کرنے کے لئے استعمال کی جانے والی لکڑی۔ المِرْزَاح من الابل جمع مَرَازِیح: بہت لاغر اونٹ جو حرکت نہ کر سکے۔

۲۔ رَزَحَ ـَـ رَزْحًا و رُزُوْحًا و رَزَاحًا الرجلَ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔

○ رَزَحَ ـَـ رُزُوْحًا و رَزَاحًا و رَزَاحًا: (بوجھ تلے) دب جانا، گر پڑنا، ڈھیر ہو جانا، زمین پر آ رہنا۔ ــ: (خاموشی) کا غیر یقینی حالت میں رہنا۔ رَازَحَ: سہنا، برداشت کرنا، جھیلنا۔

رزخ: رَزَخَ ـَـ رَزْخًا ہٗ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔

رزد: الرَزْدَق (فارسی لفظ): لوگوں کی صف، کھجوروں کی قطار۔ الرُزْداق جمع رُزْدَاقَات و رَزَادِیق: دیہات اور ان کے اردگرد کی اراضی۔

رزغ: اَرْزَغَ الماءُ: پانی کا کم ہونا۔ ــ المکانُ: کسی جگہ کا کیچڑ والی ہونا۔ ــ المحتفِرُ: کھودنے والے کا تری تک پہنچنا۔ ــ المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کو صرف تر کر دینا۔ الرَزَغ: رطوبت۔ الرَزِغ و الرَازِغ: کیچڑ یا دلدل میں دھنسا ہوا۔ الرَزَغَۃ جمع رَزَغ و رِزَاغ: پتلا کیچڑ، دلدل۔

۲۔ رَازَغَ ہٗ: کو دھوکا دینا، فریب دینا۔ اَرْزَغَ الرجلَ: کو عیب سے آلودہ کرنا۔ ــ فی فلان: کو بہت ایذا دینا، سے حقارت کرنا، پر عیب لگانا، طعن کرنا۔ اِسْتَرْزَغَ ہٗ: کو کمزور جاننا۔

○ مُرْزِغ: کیچڑ سے بھرا ہوا، دلدلی، کیچڑ میں لت پت۔

رزف ۱۔ رَزَفَ ـِـ رَزِیفًا الیہ: کی طرف آگے بڑھنا۔ ــ الجملُ: اونٹ کا دوڑنا۔ ــ الامرُ: معاملہ کا قریب ہونا۔ رَزَّفَ الیہ: کی طرف آگے بڑھنا۔ ــ الجملُ: اونٹ کا دوڑنا۔ اَرْزَفَ الیہ: کی طرف آگے بڑھنا۔ ــ الجملُ: اونٹ کا دوڑنا۔ ــ الناقۃَ: اونٹنی کو تیز دوڑانا۔ اُزْرِفَ القومُ: قوم کا جھٹ پٹ شکست کھا جانا۔ ناقۃ رَزُوف: لمبی ٹانگوں والی اور

کشادہ قدم رکھنے والی اونٹنی ۔رَزَّافات البلد: شہر کے قریب جگہیں۔

۲رَزَفَ ۔رَزِیفًا و رَزَّفَ و اَرْزَفَ الجملُ: اونٹ کا بلبلانا۔

رزق: اَرَزَقَ ۔رِزْقًا ہُ: کو رزق پہنچانا، دینا۔ کہاجاتا ہےرَزَقَہُ اللّٰہُ الغِنی: اللہ تعالٰی نے اُسے دولت دی۔رُزِقَ: روزی پانا، رزق پانا، خوش قسمت ہونا۔
اِرْتَزَقَ ہُ: سے رزق طلب کرنا۔۔۔۔ الجندُ: فوج کا رسد پانا۔اِسْتَرْزَقَ ہُ: سے رزق طلب کرنا، روزی مانگنا۔الرِزْق جمع اَرْزَاق: روزی، بارش۔الرزق الحسنُ: بلامحنت ومشقت ملنے والی روزی۔۔۔۔ والرِّزْقَۃ جمع رِزَقات: سپاہیوں کی رسد۔ کہاجاتا ہےاخذتُ رِزْقَۃَ ھٰذا الشہر او ھٰذا العام: میں نے اس ماہ یا سال کا رسد لیا۔الرَّزَّاقُ: رازق، روزی دینے والا (یہ صرف باری تعالٰی کے لئے مخصوص ہے)۔المَرْزُوق (مفع): خوش بخت۔المُرْتَزَقَ (مفع): جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔المُرْتَزِقَۃ: اپنی رسد پانے والے لوگ۔ (اع) بھاڑے یا کرائے کے سپاہی۔

۲الرَّازِقی: کمزور، ایک قسم کا لمبا سفید انگور، شراب۔ الرَّازِقِیَّۃ: شراب، کتان کے سفید کپڑے۔

○ رَزَقَ - رِزْقًا ہُ: (اللہ تعالٰی کا) کسی کو روزی کے وسائل دینا ۔۔۔ ہ ہ: کو کچھ عطا کرنا، ودیعت کرنا، کو کوئی خوش نصیبی عطا کرنا ۔۔۔ ہ مولودا: کو بچہ عطا کرنا۔رُزِقَ ہ: کچھ ودیعت کیا جانا۔۔۔۔ رہنا، زندگی بسر کرنا۔
اِرْتَزَقَ: روزی کمانا۔۔۔ من: پر یا سے زندگی بسر کرنا۔
اِسْتَرْزَقَ: اپنی روزی تلاش کرنا، روزی کے ذرائع مانگنا۔رِزْق جمع اَرْزَاق: روزی، ذریعہ آمدنی، ذریعہ معاش، معاش، روزانہ کی دال روٹی، کھانا، خوراک، غذا، عطیہ، خدا کی رحمت، جائداد، دولت، آمدنی، تنخواہ۔اَرْزَاق ناشفۃ: خشک راشن، ہنگامی راشن، خشک حصہ رسدی، ہنگامی حصہ رسدی۔
اِسْتِرْزَاق: آزاد ذریعہ معاش، روزی، خود پروری۔
مَرْزُوق: خدا کی رحمت والا، خوش بخت، اقبال مند، کامران۔مُرْتَزَق: کرایہ پر لیا ہوا، بھاڑے کا ٹٹو، کرایہ پر کام کرنے والا، زرخرید، کرایہ کا، رکھا ہوا۔
مُرْتَزِقَۃ: رکھے ہوئے لوگ، طفیلی لوگ، بھاڑے کے سپاہی۔مُرْتَزَق: روزی کے ذرائع، روزی، ذریعہ آمدنی، ذریعہ معاش، طرز زندگی۔

رزم: اَرَزَمَ ۔رَزْمًا الشیءَ: کو اکٹھا کر کے باندھنا۔ رَزَمَ بالشیءِ: کو جھپٹ لینا، چھین لینا، لپک کر لینا۔ رَزَّمَ الثیاب: کپڑے اکٹھے باندھ کر گٹھری بنانا۔رَازَمَ بینھما: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا ۔۔۔ فی المطاعم: باری باری کئی قسم کے کھانے کھانا جیسے کبھی دودھ پینا کبھی گوشت کھانا۔المُرْزِمَۃ: دن میں ایک بار کھانا۔
الرِزْمَۃ من الثیاب و غیرھا جمع رِزَم: کپڑوں وغیرہ کی گٹھری۔المرزمۃ التوافقیَّۃ (ہ): چار سیدھی لکیروں کا مجموعہ جو کسی نقطہ کو تقسیم کے موافق نقاط سے ملائیں ۔۔۔ اللاتوافقیۃ (ہ): چار سیدھی لکیروں کا مجموعہ جو کسی نقطہ کو تقسیم کے غیر موافق نقاط سے ملائیں۔المِرْزَم: باندھنے کی چیز جیسے رسی۔

۲رَزَمَ ۔رَزْمًا علی عدوّ ہ: دشمن پر غالب آ کر اس کو دبا بیٹھنا ۔۔۔ الرجلُ: مرنا۔ ۔رُزُومًا و رُزَامًا البعیرُ: اونٹ کا لاغری کے باعث اٹھ نہ سکنا۔ صفت: رَازِم جمع رُزَّام۔رَزَّمَ القومُ: قوم کا کسی جگہ جم جانا اور وہاں سے نہ ٹلنا۔رَازَمَ الدارَ: گھر میں بہت دیر رہنا۔الرِزَام جمع رُزُم: سخت آدمی۔ الاسدُ رَزَامَۃٌ و رِزَامٌ: اپنے شکار کو دبا کر بیٹھنے والا شیر۔
الرَزَّام و المُرْزِم: اپنے شکار کو نرغے میں لے کر اس پر غرانے والا شیر۔المُرْتَزَم: کہاجاتا ہےترکتُہُ بالمُرْتَزَم: میں نے اسے زمین کے ساتھ چپکا دیا۔

۳رَزَمَ ۔رَزْمَۃً الشتاءُ: موسم سرما کا سرد ہونا۔المِرْزَمَان (فلک): بارش کے ستارے۔

۴رَزَمَ ۔رَزَمَاتٍ الاُمُّ بالولید: ماں کا بچہ جننا۔

۵المُرْزَمَت الناقۃُ: اونٹنی کا اپنے بچہ پر ترس کھانا ۔۔۔ الرعدُ: بجلی کی کڑک کا سخت ہونا۔اِرْزَامٌ اِرْزِیمامًا: غضبناک ہونا۔غیثٌ رَزِمٌ: بہت بارش جس کی گرج ختم نہ ہو۔المُرْزِمَۃ: کرخت آواز، بچہ کی آواز، بچہ پر پیار آتے وقت منہ کھولے بغیر اونٹنی کے حلق سے نکلی ہوئی آواز۔ کہتے ہیں لاخیر فی رزمۃٍ لا دِرَّۃَ فیھا: یہ اس شخص کے بارے کہاجاتا ہے جو وعدہ وفا نہ کرے یا چاپلوسی کرے مگر اس کے پاس خیر و بھلائی نہ ہو۔ اس مقولہ کا معنی ہے: اس اونٹنی کی آواز سے کوئی فائدہ نہیں جس سے دودھ حاصل نہ ہو۔الرَّزِیم: شیر کی دھاڑ، جھاگ۔

○ رَزَمَ ۔رَزْمًا ہ: کا پلندہ بنانا، کی گٹھری باندھنا، کی گانٹھیں باندھنا، پوٹ باندھنا، کا بنڈل بنانا، کو تہ کرنا، لپیٹنا۔رِزْمَۃ جمع رِزَم: بنڈل، گٹھری، گانٹھ، بقچہ، پوٹ، پارسل، پلندہ، پیکٹ، ڈبہ، (کاغذ کا) رم (ream)۔

رزن: اَوَزَنَ ۔رَزْنًا الشیءَ: چیز کو اٹھا کر اس کے وزن کا اندازہ لگانا۔رَزُنَ ۔رَزَانَۃً: بھاری ہونا، بوجھل ہونا۔الأَرْزَن (ن): سخت لکڑی والا ایک درخت جس سے چھڑیاں بناتے ہیں۔

۲رَزَنَ ۔رَزْنًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔الرَّزْن والرِزْن جمع رُزُن و رِزَان و اَرْزَان: بلند جگہ جس میں پانی رکنے کے لئے نشیب ہو۔الرَّزْنَۃ جمع رِزَان: پانی رہنے کی جگہ، دلدلی زمین۔

۳رَزُنَ ۔رَزَانَۃً: سنجیدہ ہونا۔ صفت رَزِین مونث رَزَان (مونث کو رزینۃ نہیں کہاجاتا) شاعر کہتا ہے: حِصَانٌ رَزَانٌ لا تُزَنُّ بریبۃٍ: سنجیدہ گھوڑا جس سے شبہ کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔تَرَزَّنَ فی الأمرِ او فی مجلسہ: کسی امر یا مجلس میں سنجیدہ اور پکی رائے والا ہونا۔المُرْزِین: ساکن، پختہ رائے والا۔ کہاجاتا ہے: ھو رزین الرأی: وہ پختہ رائے والا ہے۔

۴رَازَنَ الرجلَ: کا دوست ہونا، کے ساتھ اترانا۔تَرَازَنَا: ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔

۵المِرْزَن: کنارہ۔المِرْزَنَۃ جمع رَوَازِن: روشن دان (فارسی لفظ)۔

○ رَزُنَ ۔رَزَانَۃً: سنجیدہ ہونا، متحمل، حلیم یا بردبار ہونا، بھاری بھرکم ہونا، پرسکون ہونا، متین ہونا، خاموش ہونا، جذبات پر قابو پائے ہوئے ہونا، ٹھنڈے دل و دماغ کا ہونا۔رَزِین: سنجیدہ، باوقار، خاموش، ٹھنڈے دل و دماغ کا۔رَزَانَۃ: سنجیدگی، متانت، تحمل، قائم مزاجی و دلجمعی، اطمینان، سکون، اپنے آپ پر قابو، ٹھنڈا مزاج، توازن، طبیعت کا سکون۔

رزی: رَزَی ۔رَزْیًا فلانًا: کسی کا احسان قبول کرنا۔ اَرْزَی اِرْزَاءً الیہ و اَرْزَی الیہ ظھرہ: کا سہارا لینا، کی پناہ لینا۔

○ رزیۃ جمع رزایا: دیکھو رزیئۃ۔

رسّ: اَوَسَّ ۔رَسًّا البئرَ: کنواں کھودنا۔المَرَسّ: پرانا کنواں، معدن۔

۲رَسَّ ۔رَسًّا الشیءَ: کو دھنسانا ۔۔۔ المیتَ: میت کو دفن کرنا ۔۔۔ رَسًّا و رَسِیسًا و اَرَسَّ السقمُ فی جسدہ: بیماری کا کسی کے جسم میں ڈیرہ ڈال دینا۔ الرَّسَّۃ: مضبوط ستون۔المَرِیس: ثابت۔

۳رَسَّ ۔رَسًّا خبرَھم: کی طرف سے خبر معلوم کرنے کی کوشش کرنا ۔۔۔ لہُ الخبرَ: سے خبر بیان کرنا۔ تَرَاسَّ القومُ الخبرَ: ایک دوسرے کو پوشیدگی میں خبر سنانا۔اِرْتَسَّ الخبرُ فی الناس: خبر کا لوگوں میں پھیل جانا۔الرَّسّ (مص): کہاجاتا ہےبلغنی رسٌّ من الخبر: مجھے خبر کا کچھ حصہ معلوم ہوا۔ الرَّسِیس: غیر صحیح خبر۔

۴ـوَسَ ـرَسًّا بینهم: کے درمیان صلح کرانا، فساد ڈالنا (ضد)ـالرَّسِیس: عاقل۔

۵ـوَاسَ مُـرَاسَّۃً هُ بـالامر: کسی پر معاملہ ظاہر کرنا، افشا کرنا، فاش کرناـالرَّسّ: چیز کی ابتداء، بخار کی ابتداء۔ کہاجاتا ہےهنه رسُّ حُمّی: اسے پہلا بخار چڑھا ہےـرسُّ الحب: پہلی محبت وـرَسِیسُ الحُمّی: بخار کا پہلا چڑھنا۔ الحُبّ: پہلی محبت۔

۶ـالرَّسّ: علامت ـرَسُّ الحُبّ: محبت کا بقیہ اور اثر۔ الـرُّسَّۃ و الأُرْسُوسَۃ: ٹوپیـالمُرَسّی: ٹیلہ۔ رَسِیسُ الحُبّ: محبت کا بقیہ اور اثر ـرِیحٌ رَسِیسٌ: نرم ہوا۔

○ رَسِیس: زنگار سے ڈھکا ہوا۔

رسب: اوـسَبَ ـرَسُوبًا و رَسَبًا الشیءُ فی الماء: چیز کا پانی کی تہہ میں چلا جاناـسَبَ فی الامتحان: امتحان میں فیل ہونا۔ ـت العینُ: آنکھ کا اندر کو بیٹھ جاناـأرْسَـبَ هُ: کو نیچے اتارنا۔ الرُّسَبُ و الرَّسَبُ و المِرْسَب من السیوف: اندر گھس جانے والی تلوارـالرَّاسِبُ من الرِجال: حلیم، بردبارـالرَّسُوب مـن الـرجـال: حلیم، بردبار۔ من السیوف: اندر گھس جانے والی تلوارـالرَّوَاسِب (ط ا): گار، درد، تلچھٹ، نیچے بیٹھنے والے مادوں کی تہیں (واحد راسِب) انہیں الرسوبیات والمواد الرسوبیۃ بھی کہا جاتا ہے۔

۲ـالراسب والرسوب من الرجال: حلیمـالمَرْسَب: مصیبت۔

○ رَسَبَ ـرُسُوبًا: تہ میں چلا جانا، تہہ میں بیٹھ جانا، بیٹھ جانا، دب جانا، دھنس جانا (خصوصاً پانی میں) ــــ فی الامتحان: امتحان میں ناکام ہو جانا، فیل ہو جانا۔ رَسَّبَ هُ: کو کسی سیال کی تہہ میں بٹھانا، گار، تلچھٹ، دُرد، تہ نشین مادہ چھوڑ جانا، کسی چیز کو اچانک کسی خاص حالت میں پھینک دیناـتَرَسَّبَ: تہہ میں بیٹھ جانا، بیٹھ جانا، دب جانا، دھنس جانا، کسی خاص حالت میں پھینکا جانا، چھوڑ جانا (تہ نشین مادہ کا)ـرُسُـوب: دُرد، تلچھٹ، گار، امتحان میں ناکامیـتَرَسِیب: تہ نشین مادوں کو چھوڑ جانے کا عمل، کسی علاقہ میں ہونے والی بارش برفباری وغیرہ کی مقدارـرَاسِب: دیکھو رَوَاسِب (اوپر)۔

رسح: رَسِحَ ـرَسَحًا: کے کولہوں اور رانوں کا لاغر ہونا، کم گوشت والا ہونا۔ صفت أَرْسَح مؤنث: رَسْحَاء، جمع رُسْحٌ أَرْسَحَ هُ: کو لاغر کرنا، دبلا پتلا کرنا۔

اِمرأۃٌ رَسْحاء: بدشکل، بری عورت۔

○ رُسْتَامِیَّۃ: (پادری کا) قبائے سیاہ۔

○ رَسْتَقَ هُ: کو صاف کرنا، سلیقے سے رکھنا، ترتیب سے رکھنا۔

○ رُسْتُو و رُوسْتُو: بھنا ہوا گوشت۔

○ رَسْتُوران: ریسٹورنٹ، ریستوران، طعام گاہ۔

○ مَرْسَح (بمعنی مسرح) جمع مَرَاسِح: تھیٹر، منڈوا، اسٹیج، پارٹی، سماجی اجتماع مَرْسَحِی: سماجی، پارٹی کا، رسمی (لباس)۔

رسخ: اوسَخَ ـرُسُوخًا: اپنی جگہ گڑ جانا۔ کہاجاتا ہے: رسخ الحِبرُ فی الصحیفۃ والعلمُ فی القلب: سیاہی کتاب میں جم گئی اور علم دل میں رچ گیاـفلانٌ راسِخٌ فـی العـلـم: فلاں شخص پختہ علم والا ہے۔ أَرْسَخَ هُ: گاڑنا، جمانا تـرَسَّخَ فی التُقی: تقوی میں راسخ القدم ہونا۔

۲ـوَسَخَ ـرُسُوخًا الغدیرُ: تالاب کا پانی زمین میں جذب ہو جانا، بیٹھ جانا۔

۳ـالمُرَسَّخ عند غلاۃ أصحاب التناسخ: (انتہا پسند تناسخ کے قائلین کے نزدیک): روح کا جسم سے نباتات و جمادات میں منتقل ہو جانا۔

○ رَسَخَ ـرُسُوخًا فی: میں مضبوطی سے قائم ہونا، مستقل بنیادوں پر استوار ہونا، میں گہرائی تک جڑ پکڑنا ــــ مضبوط ہونا، ٹھوس ہونا، پائدار ہونا ــــ فی: سے خوب واقف ہونا، میں ماہر ہونا، سے پوری طرح واقف ہونا، میں خوب مہارت رکھنا، کسی شعبہ میں ماہر ہونا ــــ رسنا ــــ فی: میں سرایت کرنا ــــ (رنگ کا) تیز ہو جاناـوَسَّخَ و أَرْسَخَ هُ: کو مستحکم کرنا، قائم کرنا، مستقل بنیادوں پر استوار کرنا، دل میں ڈالنا، کے بارے اچھی طرح ذہن نشین کرنا، کو مضبوطی سے لگانا، جڑنا، پکا کرناـتَرَسَّخَ الشیءُ فی ذِهْنِهِ: میں کوئی چیز خوب ذہن نشین کرنا، دل نشین کرنا، دل میں بٹھانا، نقش کرناـتَرَسُّخ: زیادہ مضبوطی سے قائم، زیادہ گہرائی کے ساتھ جڑ پکڑا ہواـتَرَسُّخ قدمـاً: زیادہ مضبوطی سے قائم، زیادہ گہرائی کے ساتھ جڑ پکڑے ہوئےـوَاسِخ: مضبوطی سے قائم، گہرائی میں جڑ پکڑے ہوئے، استوار، مضبوطی سے لگایا یا جوڑا ہوا، پائدار ــــ فی: سے خوب واقف، میں ماہر۔

○ رِسْرَاس: سریش، لیس دار، چپکانے والا (مادہ) خصوصاً زرد پاؤڈر سے بنا ہوا سریش جو چمڑے کو چپکانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

رسط: الـرَّسـاطـون و المرسداق: انگلی المرزدق

الرُّزْداق (فارسی)

رسع: اوسَعَ ـرَسْعًا العضوُ: عضو کا خراب اور ڈھیلا ہونا ــــ ت عینُهُ: آنکھ کے پپوٹوں کا آپس میں چمٹناـوَسِعَ ـرَسَعًا: کے پپوٹوں کا خراب ہونا۔ صفت أَرْسَع۔ ــ ت عینُهُ: کی آنکھ کے پپوٹوں کا خراب و متغیر ہونا۔ صفت رَسْعاء رَسَّعَ: کی آنکھ کے کوئے کا خراب ہونا۔

۲ـرَسَعَ ـرَسْعًا الصبیَّ وغیرَهُ: نظر بد سے حفاظت کے لئے بچہ وغیرہ کے ہاتھ یا پاؤں میں مہرہ باندھناـرَسَّعَ الصبیَّ: نظر بد سے حفاظت کے لئے بچے کے ہاتھ یا پیر میں مہرہ باندھنا۔

۳ـرَسِعَ ـرَسَعًا به الشیءُ: سے چیز کا چپکنا۔ رَسَّعَ: گھر میں جم کر رہنا اور چھوڑ کر نہ جانا ــــ الشیءَ: چیز کو چپکاناــ السَّیْرَ: ایک تسمہ کو چیر کر دوسرا تسمہ اس میں داخل کرناـالرَّسِیع: چپکا ہوا ایک تسمہ کو چیر کر دوسرا تسمہ اس میں داخل کیا ہواـالرُّسُوع: کمان کے وسط میں گندھے ہوئے تسمےـالرَّسَائع واحد رِسَاعَۃ: تلوار وغیرہ کے پرتلے کے نچلے حصہ میں گندھے ہوئے تسمے۔

رسغ: اوسَغَ ـرَسْغًا البعیرَ: اونٹ کی اگلی ٹانگوں کے گٹے میں رسی باندھناـرَسَّغَ المطرُ: ٹخنوں ٹخنوں بارش ہوناـراسَغَ هُ: کو کشتی میں گٹے پکڑ کر گرا دیناـالرُّسْغ و الرُّسُغ جمع أَرْسَاغ و أَرْسُغ (ع ا): گٹا، پہنچا، ٹخنہـالرَّسَغ (طب): جانور کی ٹانگوں میں ڈھیلا پنـالرِّسَاغ: وہ رسی جو جانور کی اگلی ٹانگوں کے گٹے میں باندھ کر کھونٹے سے باندھتے ہیں تاکہ وہ چل پھر نہ سکے۔

۲ـرَسَّغَ العَیْشَ: کو وسیع کرناـإِرْتَسَغَ علی عیالہ: اہل و عیال پر دل کھول کر خرچ کرناـالرَّسِیغ من العَیْشِ: خوشحال زندگی ــــ من الطعامِ: بہت سا کھانا، بہت سی خوراکـالمُرَسَّغ من الآراء: کمزور (خام رائے)۔

۳ـرَسَّغَ الکلامَ: کلام کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔

○ رُسْغ جمع أَرْسَاغ و أَرْسُغ: کلائی، پہنچا۔

رسف: رَسَفَ ـرَسْفًا و رَسِیفًا و رَسَفَانًا: پاؤں بندھے ہوئے کی طرح چلناـأَرْسَفَ الـدابَّۃَ: بندھے ہوئے جانور کو ہانکناـإِرْتَسَفَ الشیءُ: چیز کا بلند ہونا۔

○ رَسَفَ ـرَسْفًا و رَسِیفًا و رَسَفَانًا: بیڑیوں میں چلنا، بندھا ہونا، (بحری جہاز کا) لنگر انداز ہونا۔

رسل: اوسِلَ ـرَسَلًا و رَسَالَۃً الشعرُ: بالوں کا

لٹکنا۔ اَرسَلَ القولَ: بات کو آزادی سے کہنا، بلاقید بولنا۔ تَرَسَّلَ فی الرکوب: اپنی ٹانگوں پر کپڑے ڈال کر جانور کی پشت پر پھیلانا۔ ـــ فی القعود: اپنے پاؤں اور ارد گرد کپڑے ڈال کر چارزانو بیٹھنا۔ اِستَرسَلَ الشَّعرُ: بالوں کا سیدھا ہونا اور لٹکنا۔ ـــ فی الکلام: لمبی گفتگو کرنا۔ ـــ الیہ: کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا، بے تکلفی سے پیش آنا۔ الرَّسَلُ من الشَّعرِ: لٹکے ہوئے بال۔ الرِسلُ جمع رِسَال: نرمی، آسودگی، دودھ۔ الرَّسِیلُ جمع اَرسُل و رُسُل ورُسَلاء: کشادہ۔ الرِّسلَۃُ: کاہلی، سستی۔ رجلٌ فیہ رَسلۃٌ: کاہل مرد۔ ھُمْ فی رَسلَۃٍ من العیشِ: وہ آسودہ زندگی میں ہیں۔ المُرسَلَۃ جمع مُرسَلات: منکوں کی لمبی مالا۔

۲۔ رَسِلَ ـ رَسَلاً و رَسَالَۃً البعیرُ: اونٹ کا نرم رفتار ہونا۔ رَسَّلَ فی القراءۃِ خوش الحانی سے پڑھنا، آہستہ آہستہ درستی سے پڑھنا۔ کہا جاتا ہے: رَسَّلَ قراءتَہُ: اس نے خوش الحانی سے پڑھا۔ ـــ فی القراءۃِ: اس نے آہستہ آہستہ پڑھا۔ تَرَسَّلَ: آہستگی کرنا، نرمی کرنا۔ اِستَرسَلَ الشیءُ: نرم ہونا۔ الرَّسْلُ من السَّیرِ: آہستہ چال۔ ـــ من الابل: نرم رفتار اونٹ۔ الرِسلُ جمع رِسَال: گھوڑے کے بازو کا طرف۔ ـــ و الرِسلَۃُ: آہستگی، نرمی، محبت، دوستی۔ کہا جاتا ہے: علی رِسلِکَ یا رجُل: آہستہ و باوقار ہو۔ ناقۃٌ رَسلَۃٌ: نرم رفتار اونٹنی۔ الرسال: اونٹ کی ٹانگیں۔ ناقۃٌ مِرسَالٌ جمع مَراسِیل: نرم رفتار اونٹنی۔ الرُّسَیلَۃ: الرسلۃ کی تصغیر۔ کہا جاتا ہے: اَلقَی الکلامَ عَلَی رُسَیلاتِہ: اس نے گفتگو سے بے اعتنائی کی۔

۳۔ رَاسَلَہُ فی و علی و بالامر: ایک دوسرے سے خط و کتابت کرنا۔ ـــ ہُ الغِناءَ: سے گانے میں مقابلہ کرنا۔ اَرسَلَ ہٗ: کو بھیجنا، آزاد کرنا، چھوڑنا۔ ـــ بہ الیہ: پیغام کے ساتھ کسی کو کسی کے پاس بھیجنا۔ ـــ قولَہٗ مثلاً: اپنے قول کو ضرب المثل بنانا۔ ـــ فلاناً علیہ: کسی کو کسی پر مسلط کرنا۔ تَرَسَّلَ: خط لکھنا، رسالت کا دعوی کرنا۔ تَرَاسَلَ القومُ: آپس میں خط وکتابت کرنا، بعض کا بعض کی طرح یکے بعد دیگرے کرنا۔ الرَّسَلُ جمع اَرسَال: ہر چیز کا گلہ، آدمیوں کا گروہ۔ الرَّسَلَۃَ: گروہ جماعت۔ کہا جاتا ہے: جاءُوا رِسلَۃً: وہ جماعت جماعت آئے، گروہ گروہ آئے۔ الرَّسُول جمع رُسُل و رُسْل و اَرسُل و رُسَلاء: مسلمانوں کے نبی کا لقب، پیغمبر، بھیجا ہوا، فرستادہ، رسالت، پیغمبری، حضرت مسیح علیہ السلام کے رسولوں میں سے ایک جنہوں نے انجیل مقدس کو پھیلایا۔ الرَّسِیل جمع اَرسُل و رُسُل ورُسَلاء: بھیجا ہوا، فرستادہ، پیغامبر، ممتاز شخصیت، رسالت، پیغمبری، پیغام بھیجنے والا، جدوجہد وغیرہ میں آپ سے متفق، گھوڑ دوڑ میں دوڑنے والا گھوڑا، میٹھا پانی۔ الرِسَالَۃ و الرَّسَالَۃ جمع رَسَائِل و رِسَالات: پیغام، خط۔ المِرسَال جمع مَرَاسِیل: چھوٹا تیر، پیغامبر۔ الرَّسُولِیّ مونث رَسُولِیَّۃ: (عیسائیوں کے کیتھولک مذہب میں): پاپائے اعظم کے فیصلے اور ہدایات وغیرہ۔ المُرسَلات: ہوائیں، فرشتے یا گھوڑے۔

۞ رَسِلَ ـ رَسَلاً: (بالوں کا) لمبا ہونا، لٹکنا۔ رَاسَلَ ہٗ: کے ساتھ خط و کتابت کرنا، خطوط کا تبادلہ کرنا، مراسلت رکھنا، سے رابطہ قائم کرنا۔ اَرسَلَ ہ/ ہ/ب إلی/ل: کو کے پاس بھیجنا، ارسال کرنا۔ ـــ ہ/ب إلی/ل: کوئی چیز کسی کو بھیجنا، روانہ کرنا، کوئی چیز کسی کو جہاز کے ذریعے بھیجنا۔ ـــ: ارسال کرنا، منتقل کرنا (ریڈیو کا)۔ ـــ ہ کو چھوڑنا، جانے دینا، کو پابندی وغیرہ سے آزاد کرنا، کو چھوڑ دینا، جانے کی اجازت دینا، خارج کرنا، کا اظہار کرنا، (لفظ) زبان سے نکالنا، کہنا، بولنا، (آنسو) بہانا (بالوں کو) علی پر گرانا۔ ارسل فی طلبہِ: کسی کو بلا بھیجنا۔ ارسل الکلام ارسالاً: آزادی سے یا کھل کر کہنا۔ ارسل نَفْسَہٗ: اپنی قدرتی (فطرتی) ترنگ، جذبہ کے آگے جھک جانا، فطرتی کام کرنا۔ اَرسَلَہٗ عَلَی سَجِیَّتِہِ: کسی کو بے تکلفی سے بٹھانا، اپنے ہی گھر میں سمجھنے کو کہنا۔ ارسل نفسَہٗ علی سَجِیَّتِھا: اپنا ہی گھر سمجھنا، بے تکلفی سے بیٹھنا، اپنے احساسات اور خواہشات کا اظہار کرنا۔ تَرَسَّلَ فی: میں تاخیر کرنا، بہت سستی کرنا۔ ـــ: بالوں کا لٹکنا، لمبا ہونا۔ تَرَاسَلَ: خطوط کا تبادلہ کرنا، خط و کتابت قائم رکھنا۔ ـــ ب: ایک دوسرے کو کچھ بھیجنا، کا آپس میں تبادلہ کرنا۔ اِستَرسَلَ من ہ: سے کچھ بھیجنے کو کہنا، سے کچھ بھجوانا۔ ـــ: سستانا، آرام سے ہونا، پابندی سے آزاد ہونا، بالوں کا لمبا ہونا، لٹکنا۔ ـــ الی: کے ساتھ دوستانہ ہونا، خلیق، خوش اخلاق، بااخلاق یا بامروت ہونا، کا گہرا یا جگری دوست ہونا، کے یاروں کا یار ہونا، کے ساتھ ملنسار ہونا۔ ـــ: قدرتی طور پر کام کرنا، کسی تصنع بناوٹ کے بغیر کام کرنا، اپنی خواہشات اور احساسات کا اظہار کرنا۔ ـــ فی الکلام: تفصیلاً گفتگو کرنا، خطبہ کو طول دینا۔ ـــ فی: کا ہو رہنا، پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، کو برقرار رکھنا، اسی طرح جاری رکھنا۔ رِسْل: آہستہ، نرم، آرام آرام کا (قدم، چال) ڈھیلا؛ لمبے اور لٹکتے ہوئے (بال)۔ رِسْل: اعتدال پسندی، نرمی۔ علی رِسلِکَ: آہستہ، نرمی سے، آہستہ آہستہ کام کرو۔ رَسِیل جمع رُسَلاء: پیغام بر، پیغام رساں، قاصد، ہرکارہ۔ رَسُول جمع رُسُل پیغمبر، پیغامبر، پیغام رساں، سفارتی نمائندہ، ایلچی، مندوب، نمائندہ، (حضرت عیسی علیہ السلام کا) حواری، داعی، بانی تحریک، رسول۔ رسول اللہ یا الرسول: خدا کا پیغامبر، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رَسُولِی: پیغمبرانہ، داعیانہ، پاپائی۔ البرکۃ الرسولیۃ: پیغمبرانہ برکت، اشیرباد، دعائے خیر۔ السُّلطَۃ الرسولیۃ: پاپائی نظام پاپائی۔ قاصِدٌ رَسُولِیّ: پیغمبر کا نمائندہ۔ رِسالۃ جمع رِسَالات و رَسَائِل: ترسیل، بھیجا ہوا مال، جہاز کے ذریعے بھیجا ہوا مال، ڈاک کی چیز، (تحریری) اطلاع، مکتوب، مراسلہ، (تحریری) رپورٹ، سرکاری مراسلہ، چٹھی، خط، نوٹ، مکتوب، نامہ، بھیجی ہوئی چیز، مراسلہ، جنگی مراسلہ، خبر، پیغام، رسالہ، مقالہ (کسی موضوع پر)، ریڈیو پیغام، جمع رسالات: مشن، پیشہ، شغل، مشغلہ۔ رسالۃ برقیۃ: ٹیلیگرام۔ رسالۃ غَرامِیَّۃ: محبت کا خط۔ رسالۃ مُسَجَّلَۃ: رجسٹرڈ لیٹر (چٹھی)۔ رُسَیلات: القی الخبرَ علی رُسَیلاتِہِ: اس نے معاملہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ مِرسَال: مِرسَال نورٍ جمع مرسالات نورٍ: سرچ لائٹ (برقی روشنی کی) تیز شعاعیں۔ مُرَاسَلَۃ: خطوط کا تبادلہ، خطوط کتابت، نوٹ، پیغام، چٹھی، خط، اطلاع، مکتوب، مراسلہ۔ اِرسَال: بھیجنا، ارسال کرنا، جہاز کے ذریعے بھیجنا، ترسیل۔ اِرسَالِیَّۃ جمع اِرسَالِیَات: بھیجا ہوا مال، مرسلہ مال، ڈاک کی کوئی چیز، جہاز کے ذریعے بھیجا ہوا مال، نقل و حمل، (فوجی) مہم، مشن۔ تَرَسُّل: چٹھی لکھنے کا فن۔ اِستِرسَال: آرام، آسائش، حقیقی پن، قدرتی پن، برجستگی، بے ساختگی، آرام، بے انتہا لاپروائی، لاابالی پن، مفصل بیان، مفصل قول یا تحریر۔ مُرَاسِل جمع مُرَاسِلون: مراسلہ نگار، نامہ نگار۔ مُراسِل حربی: جنگی نامہ نگار۔ مُراسِلٌ خاصٌ: خصوصی نامہ نگار۔ مُراسِلٌ رِیَاضِی: کھیلوں کی خبریں بھیجنے والا، کھیلوں کا خبر رساں، صحافی۔ مُرسِل (خط) بھیجنے والا (مال) بھیجنے والا، ٹرانسمیٹر (ریڈیو)۔ مُرسِلَۃ جمع مُرسِلات: ٹرانسمیٹر (ریڈیو)۔ مُرسَل: بھیجا ہوا، ارسال کیا ہوا، نائب یا نمائندہ بنا کر بھیجا ہوا، تفویض کیا ہوا، ارسال شدہ،

ٹرانسمٹ کیا ہوا (ریڈیو): لمبے اور لٹکتے بال (جمع مُرسَلُون): مشنری، عیسائی مبلغ، نامکمل طور پر منتقل کی ہوئی حدیث نبوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری نسل سے پیچھے نہ جاتی ہو۔مُرسَل الیہ: وصول کنندہ، مکتوب الیہ، جسے مال بھیجا جائے، مرسل الیہ-کلامٌ مُرسَل نثر مُرسَلِیَّۃ: مشن۔ مُسْتَرْسَل: ڈھیلے، لٹکتے (بال)، دوستانہ، خلیق، خوش اخلاق، با اخلاق، بامروت، گہرا جگری (دوست) ملنسار، یاروں کا یار۔۔۔ (فی یا مع): (کی) نذر، (کے لئے) مخصوص یا وقف شدہ۔

رسم: ۱رَسَمَ ـ رَسْماً المطرُ الدیارَ: بارش کا گھروں کو مٹا کر اس کی نشانی باقی رکھنا۔ نحوَہ: کی طرف تیز جانا۔ رَسَمَا البعیرُ: اونٹ کا نشانات قدم کو باقی چھوڑنا، تیز چلنا۔ صفت رَسُوم۔ رَسَّمَ و ارْسَمَ الناقۃ: اونٹنی کو چلوا کر اس کے نشانات قدم ڈلوانا۔تَرَسَّمَ الدارَ: مکان کے نشانات کو غور سے دیکھنا۔ الشیئَ: کو یاد کرنا۔ البانیُ او الحافِرُ: عمارت بنانے یا کھودنے کے لئے زمین دیکھنا۔

الرَسْم (مص) جمع رُسُوم و ارْسُم: مکان کے مٹے ہوئے نشانات، زمین میں دبا ہوا کنواں۔ الرَسَم: چلنے کی خوبی، چال کی خوبصورتی-الرَاسِم: بہتا پانی-الرَوْسَم: مصیبت-الرَسْمان والمِرْسَم: اونٹوں کی چال-الرَوَاسِم: پرانے لوگوں کو یاد کرنے کے پُر معنے مقولے۔ واحد راسِم وراسِمَۃ: اونٹ جو چلتے ہوئے نشانات قدم باقی چھوڑ جائیں۔

۲رَسَمَ ـ رَسْماً علی کذا: پر لکھنا۔۔۔ الکتابَ: کتاب لکھنا۔۔۔ دائِرَۃً او قطعاً مخروطیا او خطا منحنیاً علی مُضَلَّع (ہ): کسی کثیر الاضلاع شکل میں دائرہ، مخروطی شکل یا خط منحنی کو اس کے سروں سے گزارنا۔۔۔ دائرۃ او قطعاً مخروطیا او خطا منحنیا فی مُضَلَّع: دائرہ، مخروطی شکل یا خط منحنی کو اس کے اضلاع کو چھوانا۔رَسَّمَ الثوبَ: کپڑے کو دھاریدار بنانا-الرَسْم (مص) جمع رُسُوم و أرْسُم: کسی چیز کا خاکہ، علامت، مجاز (غیر واقعی) جیسے شاعر کے قول میں: اری ودکم رسما وودی حقیقۃ: میں تمہاری دوستی کو غیر واقعی اور اپنی دوستی کو واقعی سمجھتا ہوں۔ (ف ج): چیزوں، اشخاص، طبیعی مناظر یا دیہاتی مناظر کی تصویر جو قلم یا برش سے بنائی گئی ہو۔ مصور کی بنائی ہوئی تصویر، رنگین تصویر، پینٹنگ۔ الرَوْسَم: علامت، نشان، پینٹنگ-الرَسَّام: نقاش، مصور-الرَاسُوم جمع رَوَاسِیم و الرَوْسَم جمع رَوَاسِم: کنداں لکڑی جس سے کھلیان میں گیہوں وغیرہ کے ڈھیر پر مہر لگائی جاتی ہے تاکہ اس میں چوری نہ ہو سکے، مہر، مٹکے وغیرہ پر مہر لگانے کی چیز-الرَوَاسِم: جاہلیت کے زمانہ کی کتابیں یا تحریریں۔

۳رَسَمَ ـ رَسْماً لہ کذا: کو کا حکم دینا-اِرْتَسَمَ الامرَ: حکم بجالانا۔ کہا جاتا ہے رَسَم لہ کذا فارتَسَمَ: اس نے اس کو ایسے کام کا حکم دیا اور وہ اسے بجالایا-الرَسْم (مص): حکم۔۔۔ عند اھل الجبایۃ: معاملہ، ایکسائز یا سیلز ٹیکس، کسٹم، ڈیوٹی۔

المَرْسُوم (مفع) جمع مَراسِیم و مَرَاسِم: لکھا ہوا، خط، سرکاری پروانہ، قاعدہ، آرڈیننس۔

۴رَسَمَ ـ رَسْمَاہُ الاسقفُ: بشپ کا کسی کو پادری بنانا-اسم: الرِسامۃ: یعنی پادری بنانا-اِرْتَسَمَ الرجلُ: پادری بنایا جانا۔۔۔ للّٰہِ تعالیٰ: تکبیر کہنا، اور دعا کرنا۔

۵رَسَمَ ـ رَسْماً ہ: کی تصویر کھینچنا، کا خاکہ کھینچنا، کا خاکہ بنانا، (دائرہ) بنانا یا کھینچنا، (کی) رنگین تصویر کھینچنا، کو لکھنا، ریکارڈ کرنا، کا نشان لگانا، کو ظاہر کرنا، کی خاکہ کشی کرنا، کو مختصر طور پر بیان کرنا، کی تصویر یا نقشہ کھینچنا، کی لفظوں میں تصویر کھینچنا، بیان کرنا۔ خِطَّۃً: منصوبہ بنانا یا نقشہ بنانا، تیار کرنا، سوچنا، تصور کرنا۔۔۔ ل ہ/ب: کے لئے کچھ مقرر کرنا، کے لئے بطور قاعدہ کچھ دینا۔ ہ: کو پادری بنانا-رَسَمَ شارۃَ الصلیب: صلیب کا نشان بنانا (ہاتھ سے، بلیات سے محفوظ رہنے کے لئے)-رَسَمَ ہ فی: کو میں درج کرنا، کا نشان لگانا، کو ظاہر کرنا۔۔۔ ہ: کسی کو افسر مقرر کرنا۔ تَرَسَّمَ ہ: کے نقش قدم پر چلنا، (مثال) پر عمل کرنا، (کو) اختیار کرنا، افسر مقرر ہونا-اِرْتَسَمَ: معلوم ہونا، ظاہر ہونا، لکھا جانا، نقل کیا جانا، کندہ ہونا، نقش کیا جانا۔۔۔ علی: پر نقش چھوڑنا، اثر یا تاثر چھوڑنا، کے ذہن نشین کرنا۔۔۔: پادری بنایا جانا، صلیب کا نشان بنانا-رَسْم: ڈرائنگ (سکول میں مضمون کے طور پر) جمع رُسُوم و رُسُومَات: تصویر، خاکہ، تصویر کشی، ڈرائنگ، ترمیم، گراف، فوٹوگراف، مثال، تمثیل، نمونہ-جمع رُسُوم: آثار، شائبہ، جھلک، نقش، ٹھپا، تقرر۔ تعین، نشان، نشانی، کندہ کاری، کتبہ، بزرگان دین کے قصے، قومی روایتی افسانے، داستان، کہانی، قصہ، ریکارڈ، یادداشت، نوٹ (سرکاری) دستاویز، (قانونی) دستاویز، تحریر، ڈیزائن، حکم، ہدایت، قاعدہ، شکل، صورت، ضابطے کی کارروائی، آداب، شرح، فیس، ٹیکس، واجبات، واجب الادا رقم۔ بِرَسْم: کے لئے، کی معرفت، کے لئے مقصود/تجویز شدہ-اَخْذُ الرسم: تصویر کھینچنا-رسم بیانی: واضح کرنے والی شکل، صورت، تشریحی خاکے، نقشے، علامات یا خطوط کے ذریعے کسی عمل کی قوت کا اظہار (diagram)-رَسْمُ الدخول: فیس داخلہ۔ رسم دخولی: درآمدی ڈیوٹی، محصول نامہ درآمد تا محصول (tariff)-رَسْمٌ شمسی: فوٹو گراف-رسم عمومی: ترتیب، زمین کی سطح پر عمارت کا نقشہ-رسم تفصیلی: مفصل ڈرائنگ۔ رسم قلبی: دل کی تصویر، دل کا نقشہ-رسوم قَیْدِیَۃ: رجسٹریشن فیس-رَسْمُ الإنتاج: ایکسائز ٹیکس-رَسْمٌ قِیَمِی: قیمت کے مطابق ڈیوٹی (ٹیکس)-رَسْمٌ ہَزْلِیٌّ: کارٹون، کسی کے مضحکہ خیز پہلو کو اور نمایاں کرنے والا خاکہ-رَسْمِیّ: سرکاری، رسمی، ضابطے کا، رواجی، تقلیدی، پر تکلف، تقاریب کا، تہوار کا، اہلکار، عہدے دار، عوام کا خادم-رَسْمِیًّا: سرکاری طور پر-رَسْمِیَات: ضابطے کی کارروائیاں، آداب و رسوم، دستور، رسم، ریت، رسمی آداب کی پابندی، قواعد، ضوابط، احکام-رجال رسمیۃ: عہدے دار-ملابس رسمیۃ: سرکاری لباس، عدالتی لباس-ثِیابٌ رسمیۃ: وردیاں-شِبْہُ رسمیّۃ یا شبہٌ بالرَسْمِیّ: نیم سرکاری-نصفُ رسمی: نیم سرکاری-غیرُ رسمی: غیر سرکاری-رَسَّام جمع رَسَّامُون: نقشہ نویس، ڈرافسمین، نقاش، مصور، فنکار-رِسَامۃ و رَسَامۃ: پادری کا تقرر، پادری مقرر کرنا، پادری بنانے کی تقریب-رَوْسَم جمع رَوَاسِم: کہاوت یا اعتقاد جو کثرت استعمال کی وجہ سے اپنی دلچسپی، تاثیر کھو بیٹھے اور غیر متعلق ہو جائے-مَرْسَم: (فنکار کا) سٹوڈیو-مَرَاسِم: تقریبات، آداب محفل، مجلسی آداب، رسومات، مذہبی مراسم، پیش وزرانہ آداب، محکمہ استقبال سفراء، کسٹم، اصول، ضوابط-مدیر ادارۃ المراسم و رئیس المراسم: چیف آف پروٹوکول: ناظم استقبال سفراء۔ مراسمُ التتویج: تاج پوشی کی تقریبات، تاج پوشی کی رسوم-مراسم التشریفات: درباری آداب۔ تَرَسُّم: ڈیزائن نقشے یا منصوبے بنانے کا عمل۔ اِرْتِسام جمع اِرْتِسَامات: (مرئی) اظہار (کسی کے احساس، جذبہ وغیرہ کا اس کے چہرہ پر)-مَرْسُوم: کھینچا گیا، نقل کیا گیا، تصویر کشی کیا ہوا، خاکہ بنایا ہوا،

جس کی رنگین تصویریں کی گئی ہو، ضابطہ تحریر میں لایا ہوا، لکھا ہوا، خاکہ، نقشہ یا ڈیزائن تیار کیا یا بنایا ہوا، منصوبہ بنایا ہوا، فیصلہ کیا ہوا، حکم جاری کیا ہوا، جمع مَراسِیم: فیصلہ، ڈگری، فعل، فرمان، ضابطہ، آرڈیننس۔ (ـــ ب: کے بارے میں)۔ مراسیم بتقریبات، آداب مجلس، مجلسی آداب، رسومات، آداب محفل، پیشہ ورانہ آداب، ضوابط۔ مرسوم بقانون: قانون، تحریری قانون، آرڈیننس۔ مرسوم تشریعی یا مرسوم اِشتراعی: بمعنی مرسوم بقانون۔ مدیرُ المَراسِمِ: چیف آف پروٹوکول، ناظم استقبال معززین۔

○ رَسْمَال جمع رَسَامِیل: بمعنی رَاْسُ مال: سرمایہ۔

رسن: رَسَنَ ـُـ رَسْناً الدابۃَ: جانور کے سر میں رسی ڈالنا، جانور کو چرنے کے لئے کھلا چھوڑ دینا۔ اَرْسَنَ الدابۃَ: بمعنی رَسَنَ الدابۃ۔ ـ المُهْرُ: بچھیرے کا رام ہو کر اپنی گردن میں رسی ڈلوانا۔ الرَسَن جمع اَرْسَان و اَرْسُن: رسی۔ کہا جاتا ہے: رَمَى بِرَسَنِهِ على غارِبِهِ: اس نے اسے جو چاہے کرنے کی کھلی چھٹی دے دی۔ المَرْسِن و المِرسَن من الدابۃ جمع مَرَاسِن: جانور کے گلے میں رسی ڈالنے کی جگہ۔

○ رَسَن جمع اَرْسُن و اَرْسَان و اَرْسِنَۃ: گلے میں باندھنے کا پٹہ، پھانسی پر لٹکانے کی رسی۔

رسا: ۱۔ رَسَا ـُـ رَسْواً و رُسُوّاً: ثابت و استوار ہونا۔ صفت: راسٍ مؤنث راسِیَۃ جمع رَوَاسٍ و راسِیات۔ ـ ت السفینۃُ: جہاز کا لنگر انداز ہونا۔ رَاسَى ہُ: سے تیرنے میں مقابلہ کرنا۔ اَرْسَى اِرْساءً الشیءَ: ثابت و استوار ہونا۔ ـ السفینۃَ: جہاز کو لنگر انداز کرنا۔ ـ الوتدَ فی الارض: کھونٹے کو زمین میں ٹھونکنا، گاڑنا۔ الرَسِیّ: قائم، خیمے کا درمیانی ستون۔ المُرْسَى (مفع) اللہ تعالی کا قول یسألونك عن الساعۃ اَيّانَ مُرْسَاها: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی۔ المَرْسَى جمع مَرَاسٍ: بندرگاہ۔ قِدرٌ راسِیۃ: بڑی دیگ جو ایک جگہ پر رہے۔ المِرْسَاۃ جمع مَرَاسٍ: کشتی یا جہاز کا لنگر۔ کہا جاتا ہے: اَلْقَى مَرَاسِیَہٗ: وہ وہ رہ پڑا، اس نے قیام کیا۔ اَلْقَتِ السحابُ مَرَاسِیَها: بادل جم کر خوب برسا۔ الرَوَاسِی: مضبوط پہاڑ جو اپنی جگہ پر ہیں۔

۲۔ رَسَا ـُـ رَسْواً بین القوم: لوگوں میں صلح کرانا اور اختلاف کو مٹا دینا۔

۳۔ رَسَا ـُـ رَسْواً عنہ حدیثاً: کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کرنا۔ ـــ لہ الحدیثَ: سے بات کا ایک حصہ بیان کرنا۔ الرَسْو: حدیث (بات) کا ایک ٹکڑا۔

○ رسو: رَسَا ـُـ رَسْواً: مضبوط ہونا، پائیدار ہونا، متوازن ہونا۔ ـ علی: ساحل سے دور لنگر انداز ہونا۔ ـ: لنگر ڈالنا، گودی میں آنا، خشکی کے قریب پہنچنا۔ ـ فی: بندرگاہ میں لنگر انداز ہونا۔ ـــ ب: کسی کو جہاز سے اتارنا (جہاز کا)۔ ـــ علی: کے پاس آخر کار یا انجام کار آنا، یا جانا۔ ـــ علی: ناخوشگوار کام یا فرض سونپا جانا۔ رسا علیہ المَزادُ: یہ نیلامی میں اسے فروخت ہوئی۔ رست علیہ المناقصۃ: ٹنڈر طلب کئے جانے کے بعد ٹھیکہ اس کو دیا گیا۔ اَرْسَى ہ: کو مضبوطی سے گاڑنا، بند کرنا، جہاز کو لنگر انداز کرنا۔ مَرْسًى جمع مَرَاسٍ: لنگرگاہ، لنگر ڈالنے کا مقام۔ مَرسی مَطْرُوح: مرسی مطروح: بحر ابیض متوسط کے ساحل پر شمال مغربی مصر کا ایک گاؤں۔ مِرْساۃ جمع مَرَاسٍ: لنگر۔ راسٍ جمع رَوَاسٍ: جمایا ہوا، گاڑا ہوا، لگایا ہوا، غیر تغیر پذیر، ساکن، غیر متحرک، ثابت قدم، غیر متزلزل، مضبوط، پکا، مستحکم، متوازن، ثابت قدم، پائدار، مضبوطی سے قائم، لنگر انداز جمع راسِیات و رَوَاسٍ: بہت اونچے غیر متزلزل پہاڑ۔

○ رسی: بمعنی رسا: لنگر انداز ہونا۔

رش: ۱۔ رَشّ ـُـ رَشّاً و تَرَشاشاً الماءَ: پانی چھڑکنا، بکھیرنا۔ ـــ تِ السماءُ: آسمان کا پھوار برسانا۔ ـــ الشیءَ: کو دھونا۔ اَرَشّتِ السماءُ: آسمان کا پھوار برسانا۔ ـــ ت الطعنۃُ: زخم کا کشادہ ہو کر اور پھیل کر خون بہانا۔ ـــ الشِواءُ: بھونے ہوئے گوشت سے چربی و چکنائی کا ٹپکنا۔ ـــ الفرسَ: گھوڑے کو دوڑا کر پسینہ نکالنا۔ تَرَشَّشَ علیہ الماءُ: پر پانی کے چھینٹے پڑنا، بہنا۔ الرَشّ (مص) جمع رِشاش: پھوار، المناک چوٹ۔ الرَشَاش: پانی اور خون وغیرہ کا چھینٹا۔ الرَشّاش (ا ع): مشین گن۔ الرُشَیش (ا ع): سب مشین گن، ٹومی گن۔ الرُشَیشۃ (ا ع): سب مشین گن، ٹومی گن۔ المِرَشّۃ: پانی وغیرہ چھڑکنے کا آلہ، جھارا۔

۲۔ رَشْرَشَ رَشْرَشۃً الشیءُ: ڈھیلا ہونا۔ ـــ البعیرُ: اونٹ کا ٹھیک بیٹھنے کے لئے سینے سے زمین رگڑنا۔ تَرَشْرَشَ الماءُ: پانی کا بہنا۔ خبزٌ او عظمٌ رَشْرَش و رَشْراش: نرم روٹی یا ہڈی۔

○ رَشّ ـُـ رَشّاً ہ: (سیال چیز کو) اچھالنا، چھڑکنا، یکا یک نکالنا، پانی وغیرہ چھڑکنا، پانی وغیرہ کا ہلکا چھڑکاؤ کرنا۔ ـــ ہ ب علی: کو کے ساتھ پر چھڑکنا، کسی چیز کے ساتھ پر چھینٹے ڈالنا۔ ـــ ہ ب: (پانی وغیرہ کے ساتھ) کسی چیز کے چھینٹے اڑانا، کو سے آلودہ یا لت پت کرنا، بگاڑنا، خراب کرنا، گندا کرنا، سے پر دھبے ڈالنا۔ ـــ ہ کو بھگونا، پانی دینا، کی آبپاشی کرنا، پر چھڑکاؤ کرنا۔ رَشّ: چھڑکنا، پانی دینا، آبپاشی کرنا، چھینٹے اڑانا، آلودہ کرنا، تھپیڑنا، لت پت کرنا، چھڑکاؤ کرنا، بکشات (ہرن مار) کارتوس۔ مصلحۃ الرَشّ و الکنس: گلیوں اور سڑکوں کی صفائی کا محکمہ۔ عربۃُ الرشّ: چھڑکاؤ کی گاڑی۔ رَمَی رَشّاً: برسٹ فائر کرنا، فائرنگ کی بوچھاڑ کرنا۔ رَشّۃ: ہلکی پھوار، ترشح۔ رَشَاش: چھینٹے ڈالا ہوا سیال، پھوار، ترشح، ٹپکا۔ رَشّاش جمع رَشّاشات: پانی دینے والی نرم نالی، مشین گن۔ مِدفع رَشّاش: مشین گن۔ مُسَدَّسٌ رَشّاش جمع مسدسات رشّاشۃ: سب مشین گن، ٹومی گن۔ رَشّاشۃ جمع رَشّاشات: خوشبو کی پھوار، پچکاری، پانی دینے والی بالٹی، فوارے کے نیچے غسل، شاور، ڈوش، پچکاری، پانی کی پچکاری۔ مِرَشّۃ: پانی دینے کی بالٹی۔

رشا: رَشَأ ـَـ رَشْأً الظبیُ: ہرنی کے بچہ کا مضبوط ہو کر ماں کے ساتھ چلنا۔ ـــ ت الظبیۃُ: ہرنی کا بچہ جننا۔ الرَشَأ جمع اَرْشاء (ح): ہرنی کا بچہ یا وہ جو چلنے لگے۔

رشت: الرِشْتَۃ (ط): سویوں اور گندھے ہوئے آٹے کی بتیوں سے بنا ہوا کھانا۔ (فارسی لفظ)۔

رشح: ۱۔ رَشَحَ ـَـ رَشْحاً و رَشَحاناً و اَرْشَحَ و اِرْتَشَحَ الاناءُ: برتن کا ٹپکنا، رسنا۔ ـــ الجسدُ: جسم کا پسینہ والا ہونا۔ کہا جاتا ہے: لم یَرْشَحْ لہٗ بشیءٍ: اس نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ رَشِحَ ـَـ رَشْحاً و رَشَحاناً: پسینہ سے تر ہونا۔ تَرَشَّحَ الماءُ: پانی کا پتھروں سے رسنا۔ الرَشْح (مص): پسینہ (طب): نزلہ، زکام۔ الراشِح (فا) جمع رَوَاشِح: پتھروں سے بہنے والا پانی، وہ پہاڑ جس کا نچلا حصہ تر ہو۔ الرَشِیح: پسینہ۔ الأَرْشَح: زیادہ تیز فہم۔ کہا جاتا ہے: ھو اَرْشَحُ فؤاداً: وہ زیادہ تیز فہم ہے۔ المِرْشَح و المِرْشَحۃ: زین کے نیچے ڈالنے کا خوگیر، پسینہ جذب کرنے والی چیز۔

۲۔ رَشَحَ ـَـ رُشُوحاً الظبیُ: ہرنی کا چھلانگیں لگانا۔ ـــ رَشْحاً و اَرْشَحَتِ الناقۃُ و لدَها: اونٹنی کا اپنے بچے کی دم کی جڑ کو رگڑنا، اور سر سے دھکیلنا اور خود رک کر اس کے ساتھ ہونے کا انتظار کرنا۔ صفت: راشِح و مُرْشِح و مُرَشِّح۔ رَشَّحَتِ الناقۃُ ولدَها: بمعنی رشحت الناقۃُ ولدها۔ ـــ الظبیۃُ ولدَها:

جننے کے بعد ہرنی کا اپنے بچہ کو چاٹنا۔ تَرَشَّحَ وَلَدُ النَّاقَةِ: اونٹنی کے بچہ کا اپنی ماں کے ساتھ چلنے کے قابل ہونا۔ ــــ ت الظبیةُ: ہرنی کا جننے کے بعد اپنے بچہ کو چاٹنا۔ الرَّاشِح (فا) جمع رَوَاشِح: زمین پر رینگنے والا کیڑا۔ ــــ من الفصلان: ماں کے ساتھ چلنے کے قابل اونٹنی کا بچہ۔

۳۔ رَشَّحَ الغیثُ النبتَ: بارش کا نباتات کو بڑھانا، اگانا۔ ــــ الولدَ: بچہ کو پالنا، کسی کام کی تربیت دینا۔ ہو یُرَشَّحُ لولایة العهد: اس کو ولی عہدی کی تربیت دی جارہی ہے۔ رَشَّحَ نفسَهُ للانتخابات او لغیرها: وہ انتخابات وغیرہ کے لئے امیدوار کھڑا ہوا۔ ــــ المالَ: مال کا اچھا انتظام کرنا۔ تَرَشَّحَ الرجلُ للامرِ: کسی امر کے قابل ولائق ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَرَشَّحَ لِلانتخابات او لغیرها: وہ انتخابات وغیرہ کے لئے امیدوار کھڑا ہوا۔ اِسْتَرْشَحَ النباتَ: پودوں کی پرورش کرنا اور انتظار کرنا کہ لمبی ہوں تو ان کی خبر گیری کرے۔ ــــ النباتُ: پودے کا بلند ہونا۔ الرَّشِیح (ن): پودا۔ المُرَشَّح: امیدوار (انتخابات یا عہدے کا)۔ مُرَشَّحُ الضابط (اع): ایک فوجی رتبہ۔

○ رَشَحَ ـَ رَشْحًا: (کو) پسینہ آنا، (برتن) کا رسنا، ٹپکنا۔ ــــ ہ: (سیال) کو ٹپکانا، چھاننا، چوانا، نچوڑنا۔ رَشَّحَ ہ: (بچہ) کی پرورش کرنا، پالنا، پوسنا، کی تربیت کرنا، (کسی کو) ٹریننگ دینا، تیار کرنا، نامزد کرنا، امیدوار بنانا۔ (ل کسی عہدے کا)۔ ــــ نفسَهُ لِ: (کسی عہدے) کا امیدوار ہونا، (کسی عہدے) کے لئے درخواست دینا۔ ــــ ہ: کو ٹپکانا، فلٹر کرنا۔ تَرَشَّحَ: پرورش پانا، پلنا۔ ــــ لِ: کے لئے موزوں ہونا، اہل ہونا، تربیت یافتہ ہونا، کے لئے امیدوار نامزد ہونا، نامزد شخص ہونا۔ ــــ: کو نزلہ ہونا، زکام ہونا۔ رَشْح: (مائع (سیال) کی ریزش، افراز پسینہ، رسنا، ٹپکنا، نکلنا، چوسنا، مقطر کرنا، تقطیر، اخراج، ٹپکا، نچوڑ، بہنا، پھوٹ نکلنا، رطوبت خارج ہونا، قطرہ قطرہ ہو کر گرنا، نزلہ و زکام۔ رُشَاحَة: نکاس، نفوذ۔ تَرْشِیح: ٹریننگ، تیاری، نامزدگی (بطور امیدوار برائے انتخابات)۔ ترشیحُ نفسهِ: امیدواری، خواستگاری، انتخاب، رعایت۔ تَرَشُّح: تقطیر کے ذریعے ڈالنا، سرایت کرنا، داخل ہونا۔ ارتشاح: تقطیر کے ذریعے ڈالنا، سرایت کرنا۔ مُرَشِّح جمع مُرَشِّحات: مقطر کرنے کا آلہ یا برتن، قہوے کا سماوار، تقطیر یا صاف کرنے کا کارخانہ۔ مُرَشَّح جمع مُرَشَّحون: امیدوار، نامزد شخص، نزلہ، زکام میں مبتلا۔ مُتَرَشِّح جمع مُتَرَشِّحون: امیدوار، نامزد شخص۔

رشد: ا۔ رَشَدَ ـُ رُشْدًا و رَشَادًا و رَشِدَ ـَ رَشَدًا: ہدایت پانا، راہ راست پر چلنا۔ ــــ أَمْرَهُ: اپنے امر میں ہدایت یافتہ ہونا۔ رَشَّدَهُ إلی کذا و علیه و له: کو کوئی ہدایت کرنا۔ ــــ ہُ القاضی: کو قاضی کا سیدھی راہ چلانا۔ أَرْشَدَهُ إلی کذا و علیه و له: کو کوئی ہدایت کرنا۔ اِسْتَرْشَدَهُ: سے ہدایت طلب کرنا، ــــ لِأمرِہِ: راہ راست پر ہونا۔ الرُّشْد (مص): راہ حق پر برقراری، ہدایت، راستگی۔ الرِّشْدَة و الرَّشْدَة: جائز شادی، جائز نکاح۔ کہا جاتا ہے: وُلِدَ لِرِشْدَةٍ: حلال زادے۔ الرَّشَدَی: راستگی، ہدایت، راہ حق پر برقراری۔ الرَّشِید: سیدھی راہ پر چلنے والا، ہدایت کرنے والا، ہدایت یافتہ۔ المُرْشِدَة جمع مُرْشِدَات: خاتون گائیڈ۔ المَرَاشِد: سیدھے راستے۔

۲۔ الرَّشَاد و الرَّشَد (ن): ایک قسم کا پودا۔ الرَّشَادَة جمع رَشَاد: چٹان، مٹھی بھر کا پتھر۔

○ رَشَدَ ـُ رُشْدًا: صحیح راستے پر ہونا، سیدھے راستے پر چلنا، ہدایت یافتہ ہونا، سچے ایمان والا ہونا، سچا مومن ہونا، عقلمند، ہوشمند، زیرک ہو جانا، پختہ عقل والا ہو جانا، جوان ہونا، بالغ ہونا۔ رَشَّدَہ: کی سیدھے اور صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کرنا، کی صحیح رہنمائی کرنا۔ أَرْشَدَہ: کی صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کرنا، کی صحیح رہنمائی کرنا۔ ــــ ہ إلی: کو کسی طرف رہنمائی کرنا، کو کا راستہ دکھانا۔ ــــ ہ إلی أن: کی اس دریافت یا انکشاف کی طرف راہنمائی کرنا کہ...... ــــ: کو کا خیال دلانا، کے ذہن نشین کرنا کہ۔ ــــ ہ إلی: کی توجہ کی طرف مبذول کرنا، پر کچھ واضح کرنا، کو کچھ کرنا سکھانا، کسی کی کسی معاملہ میں رہنمائی کرنا، یا اس کی تعلیم دینا یا اس کے بارے میں ہدایت دینا، کو کے بارے میں مطلع کرنا، کو کے حقائق سے آگاہ کرنا، کو کچھ کرنے کا مشورہ دینا۔ ــ إلی: کے خلاف مخبری کرنا۔ ــ: جوان ہونا۔ اِسْتَرْشَدَ ہ/ب: کو صحیح راستہ دکھانے کے لئے کہنا، سے رہنمائی یا ہدایات طلب کرنا، معلومات طلب کرنا، ــ: سے مشورہ کرنا، کی ہدایت صلاح مشورہ طلب کرنا، سے ہدایت طلب کرنا۔ ــ ب: سے رہبری حاصل کرنا۔ رُشْد: (اعمال کی) دیانت داری، مناسب و معقول کردار، اچھی سوجھ بوجھ یا عقل، معقول بات، ہوش، شعور، آگہی، آگاہی، پختگی، بلوغ، بلوغت (ذہن کی)۔ سِنُّ الرُّشْد: بلوغت کی قانونی عمر، پوری قانونی عمر۔ بَلَغَ رُشْدَہ: جوان ہونا۔ رَشاد إلی رُشْدِہ: کے حواس ٹھکانے لگنا، پرسکون ہو جانا، نشہ اترنا۔ ضاع رُشْدُہُ: پاگل ہو جانا، بے حال ہو جانا، بوکھلا جانا۔ ذَهَبَ بِرُشْدِہ: (تکلیف) کا کسی کو بے حال کر دینا۔ رَشَد: کردار کی پختگی، دیانتداری، صاف گوئی۔ رَشَاد: کردار کی پختگی، اچھی سوجھ بوجھ، عقل، معقول بات، ہوش، (ذہن کی) بلوغت، پختگی۔ رَشِید: ہدایت یافتہ، سچا مومن، معقول، قرین قیاس، مطابق عقل، صاحب عقل، عاقل، عقلی، چتر، سیانا، ہوشیار، خبردار، ذی شعور، فہیم، دانشمند، تیز فہم، امتیاز کرنے والا، صاحب بصیرت، صاحب تمیز، زیرک، پختہ کار، بالغ، پختہ۔ جمع رُشَدَاء: پوری عمر کا، جوان، سن بلوغ کو پہنچا ہوا۔ رشید: شمالی مصر کے ایک شہر کا نام۔ مَرَاشِد: وہ جگہ جہاں سیدھا راستہ لے جائے، بخشش، چھٹکارا، نجات، نجات دلانے والی چیز۔ تَرْشِید: کسی کی بلوغت کا اعلان یا بیان۔ إرشاد: رہنمائی، رہبری۔ (ــــ الی: تک لیجانا، تک جانے کا راستہ دکھانا) رہبر، ہاتھ، نگہداشت، روحانی رہنمائی، تعلیم، ہدایت، ہدایت نامہ، اطلاع، مشورہ دینا، نصیحت کرنا، صلاح مشورہ، رائے، ہدایت۔ ارشادات: ہدایات، احکام، نصیحت، صلاح مشورہ۔ بِإرْشَادِہ: کی ہدایات پر، کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے۔ وِزَارَةُ الإرشاد القومی: وزارت قومی رہنمائی۔ شِعْرٌ إرْشَادِیٌّ: ناصحانہ اشعار۔ رَاشِد: صحیح راستہ پر گامزن، ہدایت یافتہ، سچے ایمان کا حامل، معقول، عقلمند، ہوشمند، زیرک، پوری عمر کا بالغ، جوان۔ سن بلوغ کو پہنچا ہوا۔ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُون: صحیح العقیدہ خلفاء (ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم)۔ مُرْشِد جمع مُرْشِدُون: قائد، رہنما، رہبر، صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کرنے والا، روحانی رہنما، مشیر، صلاح کار، مخبر، معلم، سکھانے والا، جہاز ران، سیاحوں کا رہبر۔ الاخوان المسلمون کا بڑا رہنما۔ مُرْشِدَة: خاتون گائیڈ۔

○ رُشْرُش جمع رَشَارِش: کمر پٹی، پٹی، پٹکا۔ رَشْرَاش: نرم (گوشت)۔

رشف: رَشَفَ ـُ رَشْفًا و رَشِیفًا و تَرْشَافًا و رَشِفَ ـَ رَشَفًا و رَشَفَانًا الماءَ و نحوہ: پانی وغیرہ کو ہونٹوں سے چوسنا۔ ــــ الإناءَ: برتن میں جو کچھ ہو سب پی جانا۔ رَشَّفَ و أَرْشَفَ و تَرَشَّفَ و اِرْتَشَفَ الماءَ: پانی کو بہت چوسنا۔ الرَّشْف و الرَّشَف: حوض میں بچا ہوا تھوڑا سا پانی۔ کہا جاتا ہے: حوضٌ رَشَفٌ: پانی سے خالی حوض۔ المِرْشَف

جمع مَرَاشِف: پانی چوسنے کا آلہ۔اَلرَّشَّاف: بہت چوسنے والا۔اَلمَرَاشِف: ہونٹ، لب۔

○ رَشَفَ ـُ رَشْفًا و رَشِفَ ـَ رَشَفًا و تَرَشَّفَ و اِرْتَشَفَ ہ: کو ہونٹوں سے تھوڑا تھوڑا پینا، کی چسکی لینا، کو چمچے سے پینا، کو چوسنا، کی چسکی لگانا، کو ہونٹ لگا کر کھینچنا، ہونٹوں سے چوسنا، کو پینا، (برتن میں جو کچھ ہو) سارا پی لینا، چڑھا جانا۔رَشْفَة جمع رشفات: گھونٹ، چسکی۔

رشق: اَرْشَقَ ـُ رَشْقًا ہ بالسهم: کو تیر مارنا۔ ـــ ہ ببصرہِ: کو گھورنا، تیز نظر سے دیکھنا۔کہا جاتا ہے: رشقهم بنظرة: اس نے ان کی طرف نظر ڈالی۔ ـــ ہ بلسانه: پر طعن وتشنیع کرنا۔رَاشَقَ مُرَاشَقَةً ہ: ایک دوسرے کو تیر مارنا۔اَرْشَقَ الرامی: سیدھا تیر چلانا۔کہا جاتا ہے اَرْشَقَنِی مقصدی: اس نے اس کی طرف جانے میں میرا مقابلہ کیا۔اَرْشَقَ النظرَ الیه: کو گھورنا، تیز نظر سے دیکھنا۔ ـــ القومَ ببصرہ: لوگوں کو نظر جما کر دیکھنا۔ ـــ ت الظبیةُ: ہرنی کا گردن دراز کر کے تیز نظر سے دیکھنا۔تَرَشَّقَ فی الامر: کسی معاملہ میں قوی ہونا، متحرک ہونا۔تَرَاشَقَ القومُ: ایک دوسرے کو تیر مارنا۔کہا جاتا ہے تَرَاشَقُوا بِاَلْسِنَتِهِم و تَرَاشَقُوا بِاَعْيُنِهِم: انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی زبانوں سے طعن وتشنیع کی اور آنکھوں سے گھور گھور کر دیکھا۔اَلرِّشْق جمع اَرْشَاق: تیراندازی، تیرافگنی۔اَلرَّشَق: تیز تیر پھینکنے والی کمان۔اَلْاَرْشَق: ہلکا پھلکا۔کہا جاتا ہے مَا اَرْشَقَ هذه القوس: یہ کمان کتنی ہلکی پھلکی اور تیز تیر پھینکنے والی ہے۔الرَّشْقَة (ا ع): توپوں کے گولوں کی باڑ۔رَشْقَةُ اللسان جمع رشقات: بدگوئی۔کہا جاتا ہے ایّاک و رشقات اللسان: بدگوئیوں سے بچو۔

۲ رَشُقَ ـُ رَشَاقَةً الغلامُ: خوبصورت اور نازک اندام ہونا، چابک دست ہونا، پھرتیلا ہونا۔صفت رَشِیق جمع رُشُق۔ الرَّشِیق: نازک اندام خوبصورت۔ ـــ من اللفظ او الخط: خوش کلام، یا خوش خط۔الاَرْشَق: سیدھا کھڑا۔کہا جاتا ہے جِیدٌ اَرْشَق: سیدھی کھڑی گردن۔

۳ رَاشَقَ مُرَاشَقَةً ہ: کے ہمراہ چلنا۔

۴ الرَّشْق و الرِّشْق: قلم کی آواز۔آپ کہتے ہیں: سمعت رشق قلمه: میں نے اس کے قلم کی آواز سنی۔

○ رَشَقَ ـُ رَشْقًا ہ ب: پر کوئی چیز پھینکنا، پر (پتھر) پھینکنا یا کو (پتھر) مارنا، کو سے تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، مجروح کرنا، سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، سے کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ ـــ ہ فی: کو میں داخل کرنا، جکڑنا، کسنا، جمانا، نصب کرنا، مضبوط یا مستحکم کرنا۔رَشُقَ ـُ رَشَاقَةً: خوشنما ہونا، طرح دار ہونا، خوش شکل ہونا، دیدہ زیب ہونا، حسین قد و قامت کا ہونا، خوش وضع ہونا، حسین وخوبصورت ہونا، دلکش ہونا، چھریرا، دبلا پتلا اور عشوہ طراز ہونا۔تَرَاشَقَ: ایک دوسرے کو پتھر وغیرہ مارنا، ایک دوسرے کو مجروح کرنا۔رشیق: حسین وجمیل، خوبصورت، خوش پوش، خوش وضع، نازک اندام، نازک، دبلا، پتلا، چھریرا، عشوہ طراز۔رَشَاقَة: خوبصورتی، خوش پوشاکی، خوش وضعی، دلکشی، خوش اسلوبی، طرحداری، دیدہ زیبی، خوبصورت وضع یا کاٹھی، چھریراپن، چابکدستی، تیزفہمی، پھرتی، تیزی، سبک رفتاری، چستی، چالاکی۔

رشم: اَرْشَمَ ـُ رَشْمًا: لکھنا۔ ـــ بیدرَ الحنطة: (گندم) غلہ کے انبار پر مہر لگانا۔رَشَّمَ: لکھنا۔ اَرْشَمَ و اِرْتَشَمَ الاناءَ: برتن پر مہر لگانا۔الرَّشْم: گندم کے ڈھیر پر مہر لگانا، زمین پر بارش کا اثر، ہر چیز کا اثر۔الرَّشَم: زمین پر بارش کا اثر، ہر چیز کا اثر، بچہ کے چہرہ کی سیاہی۔الرَّوْشَم و الرَّاشُوم: کندہ تختی جس سے غلہ کے انبار پر مہر لگائی جائے۔الرُّشْمَة: بچہ کے چہرہ کی سیاہی۔الاَرْشَم: داغ دار، کتا۔

۲ رَشِمَ ـَ رَشَمًا: کھانے کی خوشبو پر کھانے کی خواہش کرنا۔صفت اَرْشَم۔

۳ اَرْشَمَ الشجرُ: درخت کا پتے لانا۔ ـــ البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کا سبزہ اگانا۔ ـــ ت الماشیةُ: جانور کا شروع کا سبزہ چرنا۔الرَّشَم (ز): پہلے پہلے پھوٹنے والا سبزہ۔الاَرْشَم من الغیث: تھوڑی بارش۔عامٌ اَرْشَم: وہ سال جو بخوبی فراخی و ارزانی کا نہ ہو۔

۴ الرُّشْمَة: گھوڑے اور دوسرے جانوروں کے گلے میں باندھنے کا لوہے وغیرہ کے آویزوں سے مرصع پٹہ، رسی۔

○ رَشَمَ ـُ رَشْمًا ہ: پر نشان لگانا، کو متعین کرنا۔ ـــ صلیب کا نشان بنانا۔ ـــ ہ: پہ مہر لگانا۔رَشَّمَ بصلیب علی: پر صلیب کا نشان بنانا۔رَشْمُ الصلیب: صلیب کا نشان بنانا۔رَشْم جمع رُشُوم و رُشُومات: صلیب کا نشان، اصطباغ، بپتسمہ۔رُشْمَة: چاندی وغیرہ کے آویزوں سے مرصع جانور کے گلہ کا پٹکا، اونٹ کے گلے کا پٹہ، رسی۔

رشن: رَشَنَ ـُ رَشْنًا و رُشُونًا: بن بلائے آنا، ناخواندہ مہمان بننا۔ ـــ الکلبُ فی الاِناء: کتے کا برتن میں سر ڈالنا۔الرَّاشِن (فا): بن بلائے آنے والا مہمان، شاگرد کو دیا جانے والا وظیفہ، عوام اس کو حُلْوان کہتے ہیں۔الرَّشْن و الرَّشَن: پانی نکلنے کا دہانہ۔الرَّوْشَن جمع رَوَاشِن: روشندان (فارسی لفظ)۔

○ رَاشِن: بخشش، انعام۔

رشا: اَرْشَا ـُ رَشْوًا ہ: کو رشوت دینا۔رَاشَی مُرَاشَاةً فلانًا: کو رشوت دینا، کی مدد کرنا۔رَشَّی الرجلَ: کے ساتھ نرمی برتنا۔اِرْتَشَی: رشوت لینا۔ ـــ منه رشوةً: سے رشوت لینا۔اِسْتَرْشَی فی حُکْمِهٖ: فیصلہ پر رشوت طلب کرنا۔الرُّشْوَة و الرِّشْوَة و الرَّشْوَة جمع رُشًی و رِشًی: رشوت۔

۲ اَرْشَی الدلوَ: ڈول میں رسی ڈالنا۔ ـــ الشجرُ: درخت کی ٹہنیوں کا دراز ہونا۔الرِّشَاء جمع اَرْشِیَة: رسی، ڈول کی رسی۔کہا جاتا ہے اَتْبِعِ الدلوَ رِشَاءَها: ڈول کے پیچھے رسی کو جانے دو۔یہ اس وقت کہا جاتا ہے، جب ایک کو دوسرے کی اتباع کرانا مقصود ہو۔اَرْشِیَةُ النبات: نباتات کی بیلیں۔الرَّشَاة جمع رَشًا (ن): ایک پودے کا نام۔اَلْمِرْشَاء: ڈول کی رسی۔

۳ اَرْشَی القومُ فی دمه: کسی کے خون میں شریک ہونا۔اَرْشَوا بسلاحهم فیه: کے مقابلہ میں ہتھیار نکالنا۔

۴ اِسْتَرْشَی الفصیلُ: اونٹ کے بچے کا دودھ پینے کی خواہش کرنا۔ ـــ ما فی الضرع: تھن سے دودھ نکالنا۔الرَّشِیّ: اونٹ کا بچہ۔

○ رَشَا ـُ رَشْوَاةً: کو رشوت دینا۔اِرْتَشَی: رشوت لینا، بدعنوان ہونا، ضمیر فروش ہونا۔رَشْو: رشوت، رشوت ستانی، بدعنوانی۔رَشْوَة و رُشْوَة و رِشْوَة جمع رِشًا و رُشًی و رَشَاوی: رشوت، رشوت ستانی، بدعنوانی، بددیانتی، بے ایمانی، خیانت۔رِشَاء: رسی، کوئیں کی رسی۔اِرْتِشَاء: زرپرستی، ضمیر فروشی، بدعنوانی کی طرف میلان، رشوت ستانی، بدعنوانی۔

رص: اَرَصَّ ـُ رَصًّا الشیءَ: چیز کے ایک حصہ کو دوسرے سے چمٹانا، ملانا۔صفت مفعول مَرْصُوص و رَصِیص۔ رَصَّصَ ہ: چیز کے ایک حصہ کو دوسرے حصے سے چمٹانا، ملانا، پر سیسے کی قلعی کرنا۔تَرَصَّصَ و اِرْتَصَّ: پیوستہ ہونا، جڑنا۔تَرَاصَّ القومُ: ایک دوسرے سے جڑنا، ملنا۔الرَّصَص: دانتوں کی پیوستگی۔الاَرَصّ مونث رَصَّاء جمع

رُصّ: پیوستہ اور جڑے ہوئے دانتوں والا۔ فَخِذٌ رَصَّاءُ: ران سے جڑی ہوئی ران۔ الرَّصَاص واحد رَصَاصَة (ك): سیسہ، (بندوق وغیرہ کی) گولیاں۔ الرَّصَاصِيّ: سیسہ کے رنگ والا۔
الرَّصِيص مؤنث رَصِيصَة جمع رَصَائِص: ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے: رُصَّتْ عَلَى القبرِ الرَّصَائِصُ: قبر پر پتھروں کا انبار لگ گیا۔
المَرْصُوصُ من البُنْيان: مضبوط عمارت۔ الرَّصَّاصَة: جاری چشمہ کے اردگرد کے پتھر۔

۲ رَصَّصَ الرجلُ: سوال میں اصرار کرنا۔
۳ الأَرْصُوصَة: ایک قسم کی کلاہ۔ الرَّصَّاصَة: بخیل، کنجوس۔

۴ رَصْرَصَ البناءَ: عمارت کو مضبوط کرنا۔ — في المكان: کسی جگہ ٹھہرنا، رہنا۔ الرَّصْرَاصَة: سخت زمین، جاری چشمہ کے اردگرد جڑے ہوئے پتھر۔

رَصَّ ـ رَصًّا ہ: کو بھینچنا، دبانا، کسنا، کس کر جوڑنا، مضبوطی سے لگانا، کو زمین میں ٹھونسنا، زور سے زمین میں گھسیڑنا، کے انبار لگانا، کا ڈھیر لگانا، کو آپس میں جوڑنا، کی صف بندی کرنا، قطار بندی کرنا، کو سیدھ میں لانا، کو پہلو بہ پہلو ترتیب دینا۔ رَصَّصَ ہ: کو کس کر جوڑنا، دبانا، کسنا، بھینچنا، کو کس کر جوڑنا، مضبوطی سے لگانا، کو سیسہ سے ڈھکنا، یا پر سیسہ کی قلعی کرنا۔
تَرَاصَّ: آپس میں دبنا، بندھنا، ہجوم ہونا، ٹھیک پیوست یا اچھی طرح چنا یا جما ہوا ہونا یا ہو جانا۔
رَصَاص: سیسہ، سندور، شنگرف، سرمہ یا سکہ، بندوق وغیرہ کی) گولیاں۔ قَلَمُ رَصَاص: پنسل۔ رَصَاصَة: گولی، چھرا، (آٹے کاغذ وغیرہ کی بنائی ہوئی) گولی۔ رَصَاصِيّ: سیسہ کی، سیسہ کی بنائی ہوئی، سیسے کے رنگ کا، سیسے جیسا بھاری، ہلکے خاکستری رنگ کا۔
رَصِيص: بھینچا ہوا، سکیڑا ہوا، اچھی طرح باندھا ہوا، خوب جکڑا ہوا، ہجوم سے رکا یا بند کیا ہوا، ٹھیک پیوست کیا ہوا، اچھی طرح چنا یا جما ہوا۔ تَرَاصّ: چسپیدگی۔

رصح: رَصِحَ ـ رَصَحًا: قریب رانوں والا ہونا۔ صفت أَرْصَح۔

رصخ: رَصَخَ في الامر: کام میں ماہر ہونا۔

رصد: أَرْصَدَ ـ رَصْدًا و رَصَدًا ہُ: کا انتظار کرنا، کی گھات میں بیٹھنا۔ رَاصَدَہُ: کی نگرانی کرنا۔ رَصَدَ الرقيبَ: رقیب کو راستہ میں گھات لگانے کے لئے کھڑا کرنا۔ — لہُ شيئًا: کے لئے کچھ تیار کرنا، مہیا کرنا۔ — لہُ خیرًا او شرًّا: کو بھلائی یا برائی کا بدلہ دینا۔ تَرَصَّدَہُ: کا انتظار کرنا۔ — لہ: کی گھات میں بیٹھنا۔ تَرَاصَدَ الرجلان: ایک دوسرے کی گھات میں بیٹھنا۔ اِرْتَصَدَہُ: کا انتظار کرنا۔ الرَّصَد جمع أَرْصَاد: راستہ، گھات میں بیٹھنے والے جیسے چوکیدار، نوکر چاکر (واحد جمع مذکر و مؤنث سب کے لئے یکساں آتا ہے)، کبھی جمع میں اَرْصاد بھی کہتے ہیں۔
الراصِد (فا) جمع رُصَّد و رَصَد: نگہبان، شیر، گھات میں بیٹھنے والا۔ الرَّصِيد: گھات میں رہنے والا۔ الرَّصُود: پانی پینے کے لئے اپنی باری کا انتظار کرنے والی اونٹنی۔ الرَّصْدَة: شیر وغیرہ کے شکار کے لئے کھودا ہوا گڑھا۔ المَرْصَد جمع مَرَاصِد: گھات میں بیٹھنے کی جگہ۔ مَرَاصِدُ الحيّات: سانپوں کے چھپنے کی جگہیں۔ المِرْصَاد جمع مَرَاصِيد: گھات لگانے کی جگہ، راستہ۔

۲ رُصِدَ المكانُ: کسی جگہ بارش کی بوچھاڑ پڑنا۔ صفت: مرصود۔ الرَّصْد جمع أَرْصَاد: تھوڑی بارش یا گھاس۔ الرَّصْدَة جمع رِصَاد: بارش کی بوچھاڑ۔ ارضٌ مُرْصِدَةٌ: زمین جہاں کچھ گھاس ہو۔

۳ رَصَدَ الحسابَ: حساب پیش کرنا، ظاہر کرنا، شمار کرنا۔ رَصِيدُ الحِساب (ت): ہر حساب کے بعد باقی رقم۔

۴ الرُّصْدَة: تلوار کے پرتلے کا حلقہ۔

رَصَدَ ـ رَصْدًا ہ/ہ: پر نگاہ رکھنا، کی گھات میں بیٹھنا۔ — ہ: کو بغور دیکھنا، کا مشاہدہ کرنا، کی نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا، کو قابو میں رکھنا، جادو کے زور سے (بدروح) کو بلانا۔ رَصَدَ الافلاكَ: ستاروں کا مشاہدہ کرنا، فلکی ہیئت دانی کرنا۔ رَصَّدَ ہ: مالی وسائل (فنڈ) مہیا کرنا، مخصوص کرنا، الگ کرنا، کو تیار کرنا، تیار رکھنا۔ — الحسابَ: آمد و خرج کا گوشوارہ بنانا۔ أَرْصَدَ ہ: کو تیار رکھنا۔ — ہ ل: مالی وسائل (فنڈز)، (خصوصاً) کیلئے مہیا کرنا، الگ کرنا، مخصوص کرنا، کو حاصل کرنا۔
تَرَصَّدَ الافلاكَ: ستاروں کا مشاہدہ کرنا، فلکی ہیئت دانی کرنا۔ رَصَد و رَصْد جمع أَرْصَاد: مشاہدہ۔ رصد الافلاك: ستاروں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، ستاروں کا علم، علم ہیئت۔ أَرْصَادٌ جَوِّيَة: موسمیاتی مشاہدہ۔ تقرير الارصاد: موسمی اطلاع، خبر۔ رَصْد خانہ: رصدگاہ۔ رَصَد جمع أَرْصَاد: جاسوس، ناظر، نگران، نظر رکھنے کی جگہ، مشاہدہ کی چوکی، کمین گاہ، تعویذ۔ رَصَّادُ الجوّ: موسمیات کے علم کا ماہر، عالم حوادث سماوی۔ رَصِيد جمع ارصدة: موجود مال، تجارت، دستیاب مالی وسائل (فنڈز)، جمع خرچ کا حساب، بعد میں قابل ادا بقیہ رقم، سرمایہ، بدون رصيد: چیک اس رقم کا جو بنک میں جمع نہ ہو، مالی وسائل سے زائد کا چیک۔ مَرْصَد جمع مَرَاصِد: رصدگاہ۔ مَرْصَد جوّی: دفتر یا مرکز موسمیات۔ مِرْصَد: دوربین۔ مِرْصَاد: مشاہدہ کی چوکی، یا جگہ، کمین گاہ۔ وَقَفَ بِالمِرصاد: گھات میں بیٹھنا۔ كان منہ بالمرصاد یا وقف لہ بالمرصاد: کے لئے گھات میں بیٹھنا، کو راستہ میں روکنا، کی رہزنی کرنا۔ رَاصِد: رجسٹری کرنے والا جمع رُصَّاد: جاسوس، ناظر، نگران۔ خزينة راصدة: کیش رجسٹر۔ رَاصِدَةٌ فَلَكِيَّةٌ: دوربین۔ مُبْلَغٌ مَرْصُود: ضمانت کفالت، وثیقہ، ہنڈی۔

رصع: أَرَصَعَ ـ رَصْعًا ہُ بيده: کو تھپڑ مارنا۔ — ہ بالرُّمح: کو زور سے نیزہ مارنا۔ — السنانَ في المطعون: نیزہ کے بھالے کو زخمی کے اندر غائب کر دینا۔ أَرْصَعَہُ بالرمح: کو زور سے نیزہ مارنا۔ طعنٌ أَرْصَع: پورا چھدا ہوا نیزہ۔
۲ رَصَعَ ـ رَصْعًا الحبَّ: دانہ کو دو پتھروں کے درمیان کوٹنا۔ اِرْتَصَعَ الحبَّ: دانہ کو دو پتھروں کے درمیان کوٹنا۔ الرَّصِيعَة جمع رَصَائِع: کوٹے ہوئے دانے۔

۳ رَصَعَ ـ رُصُوعًا بالمكان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ رَصِعَ ـ رَصَعًا بالطيب: خوشبو سے مہک جانا۔ — بالشيء: کسی چیز سے چپکنا۔ رَصَّعَ الشيءَ: چیز کا اندازہ کرنا، چیز کو بننا۔ کہا جاتا ہے: رَصَّعَ الطائرُ عُشَّہُ بالقضبان: پرندے نے اپنے گھونسلے کو تنکوں کو جوڑ کر بنا۔ — الذهبَ بالجواهرِ: سونے میں ہیرے موتی جڑنا۔ کہا جاتا ہے: تاجٌ مُرَصَّعٌ بالجواهر: ہیرے موتی جڑا ہوا تاج۔ العِقْدَ بالجواهر: ہار میں جواہر پرونا۔ تَرَصَّعَ: جڑاؤ ہونا۔ اِرْتَصَعَ بہ: سے چپکنا۔ — ت اَسْنانُہُ: کے دانتوں کا پیوستہ و برابر ہونا۔ الرَّصِيعَة جمع رَصَائِع: لگام کی گرہ، تلوار یا زین وغیرہ کا حلقہ یا گول زیور۔

۴ تَرَصَّعَ: خوش ہونا، چست ہونا۔ الأَرْصَع: لاغر سرین والا۔

رَصَّعَ ہ ب: کسی چیز میں (سونے، قیمتی پتھر وغیرہ) سے منبت کاری کرنا، میں (جواہرات وغیرہ) لگانا، جڑنا، کو سے آراستہ کرنا، سجانا، کی سے آرائش کرنا، کو سے آراستہ پیراستہ کرنا، مزین کرنا، کی سے زینت بننا، زیبائش کرنا، کو سے خوبصورت یا خوشنما بنانا، کو سے مرصع کرنا۔

رصف ا- رَصَفَ ـُ رَصْفًا الحجارةَ: پتھروں کو ایک دوسرے سے جوڑنا۔ ــ المُصَلِّي قَدَمَيهِ او بين قدميه: نمازی کا اپنے قدموں کو قریب قریب رکھنا یا ایک کو دوسرے سے ملانا۔ ــ السهمَ: تیر کو پٹھے سے باندھنا، جو چھڑ میں تیر کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هذا الامرُ لا يَرْصُفُ بِكَ: یہ کام تمہارے لائق نہیں۔ رَصُفَ ـُ رَصَافَةً العملُ: کام کا مضبوط ہونا یا پائیدار ہونا۔ رَصِفَ ـَ رَصَفًا و رَصِفَ رَصَفًات اسنانُهُ: دانتوں کا پیوستہ و ہموار ہونا۔ تَرَصَّفَ و تَرَاصَفَ و اِرْتَصَفَ ت الحجارةُ: پتھروں کا ایک دوسرے بالترتیب ملا ہوا ہونا۔ ــ القومُ في الصفّ: لوگوں کا صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا۔ ــ ت أَسْنَانُهُ: کے دانتوں کا برابر و ہموار ہونا۔ الرَّصَفُ واحد رَصَفَة: پانی کے بہنے کی جگہ میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے پتھر، پانی کے لئے بنایا ہوا پشتہ۔ الرَّصَفَتَانِ (ع ا): گھٹنے کی ہڈیوں کے پیچھے، گھٹنے۔ الرِّصَاف جمع رَصَف و رُصُف: پہلو کی ہڈیاں، پٹھا جو چھڑ میں تیر کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر لگایا جاتا ہے، گھوڑے کا پٹھا۔ الرَّصِيف: پتھروں سے فرش کئے ہوئے راستہ کی ایک طرف (فٹ پاتھ، پٹری)۔ عملٌ رصيف: پختہ و مضبوط کام۔ الرُّصُوفَة: استقلال، ثابت قدمی، پائیداری۔ الرُّصَافَة: پٹھا جو چھڑ میں تیر کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر لگایا جاتا ہے۔ المِرْصَافَة: ہتوڑا۔

۲- اَرْصَفَ: شراب میں پہاڑی چشمہ کا پانی ملانا۔ ماءُ الرَّصَف: پہاڑ سے چٹان پر گرنے والا پانی جو صاف ہو جاتا ہے۔

۳- الرَّصِيف: نظیر، دوست۔ الرُّصَافة: جوانب شہر کا سبزہ زار عام طور پر بغداد کے ایک محلہ کا نام۔

○ رَصَفَ ـُ رَصْفًا ہ: کی فرش بندی کرنا، پر فرش لگانا، پر پتھر بچھانا۔ رَصُفَ ـُ رَصَافَةً: مضبوطی سے جڑا ہوا ہونا۔ رَصَّفَ ہ: کی فرش بندی کرنا، پر فرش لگانا، پر پتھر کی سلیں بچھانا۔ رَصْف فرش بندی۔ رَصِيف: مضبوطی سے جوڑا ہوا، مضبوط، ٹھوس، ٹھیک پیوست کیا ہوا، اچھی طرح چنا یا جمایا ہوا (جمع اَرْصِفَة): پختہ فرش والی جگہ، پکا فٹ پاتھ، پیادہ رو، پٹری، گھاٹ، مال گودی، گودی، پل کا پایہ یا ستون، پتھر کا بند، مصنوعی بندرگاہ، حفاظتی بند، بندرگاہ سے جہاز تک جانے والا پل، پلیٹ فارم (جمع رُصَفَاء)، رفیق کار۔ رصيف المحطة: (ریلوے) پلیٹ فارم۔ رصيف لا عمال الحفر في البحر: ساحل کے قریب برمے سے سوراخ کرنے کے لئے بنایا ہوا پلیٹ فارم۔ عَوَائِدُ الرصيف: مال گودی کا کرایہ۔ رَصِيفَة جمع رَصِيفات: عورت رفیق کار۔ رصيفتنا الغراء: ایک اخبار کا دوسرے اخبار کے ذکر پر کہنا: ہمارے معزز دوست۔ رَصَافَة: مضبوطی، پختگی، متانت، چستی، گاڑھاپن، گھناپن۔ مَرْصُوفٌ بِ: سے فرش بندی کیا ہوا۔

رصن: ا- رَصَنَ ـُ رَصْنًا الامرَ: کو پورا کرنا، مضبوط کرنا۔ رَصُنَ ـُ رَصَانَةً العقلُ وغيرُهُ: عقل وغیرہ کا پختہ، مضبوط یا سنجیدہ ہونا، ثابت قدم رہنا، صفت رَصِين۔ رَصَنَ الشيءَ معرفةً: چیز کو بخوبی سمجھنا، جاننا۔ کہا جاتا ہے: رَصِّنْ لِي هذا الخبرَ: میرے لئے اس خبر کی تحقیق کرو۔ اَرْصَنَ ہُ: کو مستحکم کرنا، مکمل کرنا۔

۲- رَصَنَ ـُ رَصْنًا ہُ بلسانِهِ: کو گالی دینا۔

۳- رَصَنَ ـُ رَصْنًا الدابةَ: جانور کے داغ لگانا، کو داغنا۔ المِرْصَن: جانوروں کو داغنے کا لوہا۔ الرَّصِين: دکھی، دردمند۔

۴- الرَّصَن (ن): ایک پودے کا نام۔ الرَّصِين: اپنے ساتھی کی ضرورت کو خوش آمدید کہنے والا یا اس کی ضرورت کا خیر مقدم کرنے والا۔

○ رَصُنَ ـُ رَصَانَةً: مضبوط ہونا، قوی ہونا، سنجیدہ ہونا، متین ہونا، خاموش ہونا، جذبات پر قابو پائے ہونا۔ رَصِين: مضبوط، غیر متزلزل، سنجیدہ، متین، خاموش، جذبات پر قابو پائے ہوئے۔ رَصَانَة: سنجیدگی، متانت، سکون، دلجمعی، اطمینان، خامشی، سکوت، ٹھہراؤ۔

رصا: رَصَا ـُ رَصْوًا الشيءَ: کو مضبوط کرنا، پکا کرنا۔ اَرْصَى بالمكان: کسی جگہ رہ پڑنا، جم کر رہنا۔

رَضّ: ا- رَضَّ ـُ رَضًّا ہُ: کو کوٹنا، دلنا۔ رَضَّضَ الشيءَ: کو خوب کوٹنا، خوب دلنا۔ تَرَضَّضَ: کوٹا جانا، دلا جانا۔ اَرَضَّ التعبُ العرقَ: تکان کا پسینے کو بہا دینا۔ اِرْتَضَّ الشيءُ: ٹوٹنا۔ الرُّضَاض: ٹوٹی ہوئی چیز کے ٹکڑے۔ الرَّضِيض: کوٹا ہوا، دلا ہوا۔ المِرَضَّة: کوٹنے یا دلنے کا آلہ۔

۲- اَرَضَّ: بوجھل و سست رفتار ہونا۔ الرَّضّ و المُرِضَّة و المَرَضَّة (ط): گٹھلی نکالی ہوئی اور دودھ میں بھگوئی ہوئی کھجوریں۔ الأَرَضّ: جم کر بیٹھنے والا۔

۳- اَرَضَّ: تیز دوڑنا۔ ــ في الارض: زمین میں جانا۔

۴- رَضْرَضَ ہُ: کو پوری طرح نہ کوٹنا۔ تَرَضْرَضَ الحجرُ: پتھر کا ٹوٹنا، بغیر ٹھہرے متحرک ہونا۔ الرَّضْرَاض: چھوٹی باریک کنکریاں۔ ــ مونث رَضْرَاضَة: بہت گوشت والا یا پرگوشت آدمی۔ الرَّضْرَاضَة: بغیر رکے زمین پر حرکت کرنے والے پتھر۔

○ رَضَّ ـُ رَضًّا ہ: کو مسلنا، پیسنا، کچلنا، جسم کے (ایک حصہ) کو زخمی کرنا، خراش ڈالنا، رگڑنا۔ رَضّ جمع رُضُوض: رگڑ، خراش، کجی مار، گپت مار۔ رَضِيض: مسلا ہوا، پسا ہوا، کچلا ہوا، خراش ڈالا ہوا، رگڑ پہنچایا ہوا، زخمی کیا ہوا۔ رَضْرَضَ ہ: کو توڑ کر اس کے کھردرے ٹکڑے کرنا، کو کچلنا، مسلنا، پیسنا، رگڑنا۔ رَضْرَاض: سنگ ریزے، بجری، کنکر۔

رضب: ا- رَضَبَ ـِ رَضْبًا و تَرَضَّبَ الريقَ: تھوک چوسنا۔ الرُّضَاب: چوسا ہوا تھوک، شہد کا لعاب اور جھاگ۔ المَرَاضِب و المَرَاضِيب: خوش مزہ تھوک۔

۲- رَضَبَ ـِ رَضْبًا و اَرْضَبَ المطرُ: بارش کا زور سے برسنا۔ ــ ت السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔ الرَّاضِب (فا) من المطر: موسلا دھار بارش، زور کی بارش۔ الرُّضَاب: اولے، برف اور شکر وغیرہ کے ٹکڑے، مشک کے کھیرے و ریزے۔ ماءٌ رُضَابٌ: میٹھا پانی۔

○ رُضَاب: تھوک، لعاب دہن۔

رضح: ا- رَضَحَ ـَ رَضْحًا النوى او الحصى: گٹھلی یا کنکر توڑنا۔ ــ راسَهُ بالحجر: کے سر کو پتھر سے کوٹنا، دلنا۔ تَرَضَّحَ الحصى: کنکری کا ٹوٹنا۔ ــ الخبزُ: روٹی کو توڑنا۔ الرُّضَح: گٹھلی۔ الرَّضْح: تھوڑی بخشش۔ کہا جاتا ہے: بَلَغَنَا رَضْحٌ من خبر: ہمیں تھوڑی سی خبر معلوم ہوئی۔ الرَّضِيح: ٹوٹی ہوئی گٹھلی۔ الرُّضْحَة جمع رِضَاح: توڑتے وقت پتھر کے نیچے سے اڑ کر جانے والی گٹھلی۔ کہا جاتا ہے: وقعت رَضْحَةٌ من المطر: تھوڑی سی بارش ہوئی۔ المِرْضَاح: وہ پتھر جس سے گٹھلیاں توڑی جائیں۔

۲- تَرَاضَحُوا بالنشاب: ایک دوسرے کو تیر مارنا۔

۳- اِرْتَضَحَ من الامر: کام کا عذر کرنا۔

رضخ: ا- رَضَخَ ـَ رَضْخًا النوى او الحصى: گٹھلیاں یا کنکر توڑنا۔ تَرَضَّخَ الحصى: کنکر کا ٹوٹنا۔ ــ الخبزَ: روٹی توڑ کر کھانا۔ الرَّضِيخ: ٹوٹی ہوئی گٹھلی۔ المُرْضَاخ جمع مَرَاضِيخ و المِرْضَخَة: وہ پتھر جس سے یا جس پر گٹھلیاں توڑی جائیں۔

۲- رَضَخَ ـَ رَضْخًا لهُ من ماله رَضْخَةً: کسی کو اپنے

بہت سے مال میں سے تھوڑا سا دینا۔ رَاضَــــخَ الشیءَ: کو کچھ با دل ناخواستہ دینا۔ ــــ منه شیئاً: کسی سے کچھ پانا، حاصل کرنا۔ ارۡضَخَ للرجل: کو اپنے بہت (سے مال) میں سے تھوڑا سا دینا۔ الــرَضۡخ: تھوڑی بخشش۔ الــرَضَــاخة و الرَضِیۡخَة: تھوڑی بخشش۔

۳۔ رَضَخَ ۔رَضۡخًا ت التیوسُ: مینڈھوں کا ایک دوسرے کو سینگ مارنا۔ رَاضَخَ هُ: ایک دوسرے کو پتھر مارنا۔ تَـراضَخَ القـومُ بـالحجارة: ایک دوسرے پر پتھر برسانا، ایک دوسرے کو پتھر مارنا۔

۴۔ رَضَخَ ۔رَضۡخًا له: کی فرمانبرداری کرنا۔ ــــ للحق: حق مان لینا، حق پر یقین لانا۔

۵۔ تَرَضَّخَ الخبرَ: خبر سن کر اس پر یقین نہ کرنا۔ ارۡتَضَخَ: کہا جاتا ہے: فلان یرۡتَضِخُ لُکۡنَةً اعجمیةً: فلاں شخص اجنبی لہجہ میں عربی بولتا ہے۔ الرَضۡخ: غیر یقینی خبر۔

○ رَضَخَ ۔رَضۡخًا ہ: کو توڑنا، توڑ پھوڑ ڈالنا، تہس نہس کرنا، پاش پاش کرنا۔ ــــ ہ: (گری) کو تڑقانا، چٹکانا۔
رَضَخَ ۔رَضۡخًا هُ: کو چھوٹا معمولی سا تحفہ دینا۔ ــــ رُضُوخًا ل: کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک جانا، کے آگے سر تسلیم خم کرنا، سے مغلوب ہونا، کا ماتحت بن جانا۔ رَضۡخ و رَضۡخَة: چھوٹا معمولی سا تحفہ۔ رَضِیۡخَة: چھوٹا معمولی سا تحفہ، بخشش، انعام۔ رُضُوخ: فرمانبرداری، اطاعت، سپر اندازی، قبول اطاعت، کسی کی بات مان لینا، کسی کی خواہش کے آگے جھک جانا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، تعمیل (حکم کی)۔ ــ ل: کی ہمدردانہ مفاہمت۔ مِرۡضَاخ: سروتا۔

رضد: رَضَدَ ۔رَضۡدًا المتاعَ: سامان کو چننا، ترتیب سے رکھنا۔ ارۡتَضَدَ المتـاعُ: سامان کا چنا جانا، ترتیب سے رکھا جانا۔

رضع: ا۔ رَضِعَ ۔و رَضَعَ ۔رَضۡعًا و رَضَعًا و رَضِعًا و رَضَاعًا و رِضاعًا و رَضَاعَةً و رِضاعَةً و ارۡتَضَعَ الولدُ امَّهُ: بچہ کا ماں کا دودھ پینا۔ صفت: راضِع جمع رُضَّع: کہا جاتا ہے: فلان یرضع الدنیا و یذمّها: فلاں شخص دنیا کا دودھ پیتا ہے اور اس پر تنقید بھی کرتا ہے۔ رَاضَعَ رِضاعًا و مُراضَعَةً ہُ: دودھ شریک بھائی کے ساتھ دودھ پینا۔ ــــ ابنَهُ: بچہ دودھ پلانے والی کو دینا۔ ــــ الطفلُ: بچہ کا اپنی حاملہ ماں کا دودھ پینا۔ ارۡضَعَ هُ: کو دودھ پلانا۔ ــــ ت المرأةُ: دودھ پیتے بچے والی ہونا۔ صفت: مُرۡضِع: (اس میں تاء تانیث نہیں لگاتے کیونکہ یہ صفت اناث کے لئے مخصوص ہے۔ البتہ جب وہ بچہ کے منہ میں پستان دیتی ہے تو اس کو مُـــرۡضِعَة کہتے ہیں۔ جمع مُرۡضِعات و مَرَاضِع۔ اِسۡتَرۡضَعَ: دودھ پلانے والی کو تلاش کرنا یا بچہ کو دودھ پلانا چاہنا۔ کہا جاتا ہے: استرضعتُ المرأةَ ولدی: میں نے عورت سے اپنے بچہ کو دودھ پلانے کی درخواست کی۔ الراضِع: دودھ والی۔ الـراضِعَة جمع رَوَاضِع: رَاضِع کا مؤنث۔ الـرَّاضِعَتَـان جمع رَوَاضِع: بچے کے سامنے کے دو دانت۔ الـرَضِیۡع جمع رُضَعاء و الـرَضِع جمع رُضُع: بمعنی الراضِع رَضِیۡـعُكَ: تیرا دودھ شریک بھائی اور تو اس کا دودھ شریک بھائی ہے اور تم دونوں رضیعان (دودھ شریک بھائی) ہو لہذا مشارکت کی بنا پر المـراضِع (دودھ شریک بھائی کے ساتھ دودھ پینے والا) کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی سے ہے: فلانٌ رضیعُ اللؤم: فلاں شخص کمینہ ہے۔ هم رُضَعاءُ اللؤم: وہ کمینے ہیں۔ الـرَضَّـاع: بہت دودھ پینے والا۔ الـرَضَـاعَة و الرِضَاعَة: دودھ پلانا (بچہ کو ماں کا)۔ الرَضُوعة: اپنے بچہ کو دودھ پلانے والی عورت۔

۲۔ رَضُعَ ۔رَضَاعَةً: کمینہ ہونا صفت: رَاضِع جمع رُضَّع۔ الـرَضَع: کمینہ پن۔ الـراضِع (فا): کمینہ، لوگوں سے سوال کرنے والا۔ الـرَضِیۡع جمع رُضَعـاء و الـرَّاضِع جمع رُضَّع: کمینہ۔ الرَضَّاع: کمینہ۔ المَرَاضِیع: کمینے۔

۳۔ الرَضَع واحد رَضَعَة (ح): شہد کی مکھی کے چھوٹے بچے۔ الــرَضَــاعَة: پچھوائی اور دکنی ہواؤں کے درمیان کی ہوا۔

○ رَضِعَ ۔و رَضَعَ ۔رَضۡعًا و رَضَاعًا و رَضَاعَةً لدیَ امّهِ: بچہ کا اپنی ماں کے پستان سے دودھ پینا، ماں کا دودھ پینا۔ رَضَّـعَ و ارۡضَـعَ ہ: بچہ کو ماں کا دودھ پلانا، پستان کا دودھ پلانا۔ رَضِیۡع جمـع رُضَعـاء و رَضَائِع: دودھ پینے والا بچہ، شیر خوار بچہ، رضاعی بھائی۔ رَضَاعَة جمع رَضَاعَات: بچے کے دودھ کی بوتل۔ رِضَاع: رضاعی رشتہ داری۔ رَاضِع جمـع رُضَّع: ماں کا دودھ پینے والا، دودھ پیتا بچہ، شیر خوار بچہ، بچہ، چھوٹا، چھوٹے بچوں کا یا چھوٹے بچوں کے لئے۔ مُرۡضِع و مُرۡضِعَة جمع مَرَاضِع: انا، دایہ، دوسرے کے بچہ کو دودھ پلانے والی، رضاعی ماں۔

رضف: ا۔ رَضَفَ ۔رَضۡفًا اللبنَ: دودھ کو گرم پتھر پر گرم کرنا۔ ــ ہ: کو داغنا۔ ــــ اللحمَ: گوشت کو گرم پتھر پر بھوننا۔ رَضَّفَ هُ: کو غصہ دلا کر آگ بگولا کرنا۔ الـرَضۡف واحد رَضۡفَة: گرم پتھر۔ کہا جاتا ہے: هو علی الرَضۡف: وہ رنجیدہ ہے۔ الـرَضَفَة جمع رَضَف و رَضَفات: گھٹنے کی چپنی، گرم پتھر سے لگایا ہوا داغ۔ الـرَضِیۡف: گرم پتھر (ط)، گرم پتھروں پر بھونا ہوا گوشت، گرم پتھر ڈال کر گرم کیا ہوا دودھ۔ الـمَـرۡضُوف (ط): گرم پتھروں پر بھنا ہوا گوشت۔ الرَضِیۡفَة: گرم پتھروں سے گرم شدہ دودھ۔ کہتے ہیں: شربتُ الرَضِیفة: میں نے پتھروں سے گرم کیا ہوا دودھ پیا۔ ــــ و المَرۡضُوفة: جگالی کرنے والے جانور کی اوجھ جسے دھو اور صاف کر کے سفر میں ساتھ لیجاتے ہیں اور ہانڈی نہ ہو تو گوشت کے ٹکڑے کر کے اوجھ میں ڈالتے ہیں اور پتھر گرم کر کے اوجھ میں اس وقت تک ڈالے رکھتے ہیں جب تک گوشت کے ٹکڑے پک نہ جائیں۔ المِـرۡضَافة: داغ لگانے کا آلہ، داغنے کا آلہ۔

۲۔ الـرَضۡف واحد رَضۡفَة: گھٹنے کی ہڈیاں۔ ضرب المثل میں کہتے ہیں: خُذۡ من الرَضۡفَة ما علیها: کنجوس سے تھوڑا ہی لیلو۔ الـرَضۡفَة (ع ا): گھٹنے کی چپنی۔ عام لوگ اسے صابونة الرکبة کہتے ہیں۔

رضم: ا۔ رَضَمَ ۔رَضۡمًا البیتَ: گھر کو بڑے بڑے پتھروں سے بنانا۔ (رَضِیۡم و رضوم: بڑے بڑے پتھروں سے بنایا ہوا گھر)۔ ــــ المتاعَ: سامان کو ترتیب سے رکھنا، تہہ بتہ چننا۔ ــــ علیه الصخرَ: پر بڑے پتھر ڈالنا۔ ــــ الشیءَ: کو توڑنا۔ ارۡتَضَمَ المتـاعُ: سامان کا تہہ بتہ ہونا۔ الـرَضۡم واحد رَضۡمَة و الرَضَم و الرِضَام: بڑے بڑے پتھر جو عمارتوں میں اوپر تلے چنے جاتے ہیں۔

۲۔ رَضَمَ ۔رَضۡمًا و رَضَمانًا بالمکان: کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔

۳۔ رَضَمَ ۔رَضۡمًا الأرضَ: زمین جوتنا۔ ــــ رَضۡمًا و رَضَمَانًا فی المشی: سست چلنا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑنا۔

رضا: ا۔ رَضَا ۔رَضۡوًا هُ: سے خوشنودی اور پسندیدگی میں بڑھ جانا۔ کہا جاتا ہے: رَاضَانی فرَضَوۡتُهُ: اس نے مجھے شکست دینے کی کوشش کی تو میں نے اسے زیر کر لیا۔ رَضِیَ ۔رِضًا و رِضًا و رُضًی و رِضًی و رُضۡوانًا و رِضۡوانًا و مَرۡضَاة عنه و علیه: سے راضی ہونا، خوش ہونا۔ صفت: رَاضٍ جمع رَاضُون و رَضِیّ جمع ارۡضِیَاء، و رُضَاة و رَاضٍ جمع

رَاضُون و رُضَاة ـ الشیءَ و به و عنه: کو پسند کرنا، پر قناعت کرنا۔ صفت: صفت مفعولی: مَرْضِیّ و مَرْضُوّ: کہا جاتا ہے: رَضِیَ اللّٰہُ عن فلانٍ و رُضِیَ عنه: اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرمائے اور اس کو ثواب سے نوازے۔ رُضِیَت معیشتُه: اس کی زندگی خوشگوار ہے۔ رَضَّی الرجلَ: کو راضی کرنا، عطیہ دے کر راضی کرنا، خوش کرنا۔ رَاضَی رِضَاءً و مُرَاضَاةً الرجلَ: کی رضامندی طلب کرنا، کا متمنی ہونا، سے پسندیدگی میں مقابلہ کرنا۔ اَرْضَی الرجلَ: کسی کو راضی کرنا، عطیہ دے کر خوش کرنا۔ تَرَضَّی الرجلَ: کی خوشنودگی چاہنا۔ تَرَاضَی القومُ الشیءَ: کسی شے کو قوم کے سارے افراد کا پسند کرنا۔ اِرْتَضَی هُ لِخدمتِه او لصُحْبَتِه: کو اپنی خدمت یا سنگ کے لئے پسند کرنا۔ اِسْتَرْضَی هُ: کی رضامندی طلب کرنا۔ اِسْتَرْضَیْتُه: میں نے چاہا کہ وہ مجھے خوش کرے۔ رجل و اِمرأةٌ رِضًی: پسندیدہ مرد و عورت (یہ مفعول کے معنی میں مصدر سے تعریف ہے اس میں مفرد، مثنیٰ جمع مذکر و مونث کے لئے یکساں آتا ہے)۔ الرَضِیّ: عاشق۔ الرِضَاء: خوشنودی۔ الرِضْوَة: رضامندی۔ کہا جاتا ہے: ما فعلتُ ذلك الاعن رِضْوَتِه: میں نے یہ کام اس کی رضامندی سے ہی کیا ہے۔ عیشةٌ راضیةٌ: خوشگوار زندگی۔

۲۔ الرَضِیّ: لاغر، چھریرا۔ رَضْوَی: مدینہ طیبہ اور ینبع کے درمیان واقع ایک پہاڑ کا نام۔ نسبت کے لئے رَضَوِیّ کہا جاتا ہے۔

۳۔ رَضِیَ ـ رِضًی و رِضْوانًا و مَرْضَاةً ہ/ب/فی: پر/سے مطمئن ہونا، پر صابر، صابر شاکر، قانع اور راضی ہونا، کی اجازت یا منظوری دینا، پر رضامندی ظاہر کرنا، سے متفق ہونا، کو قبول کرنا۔ ـــ ان: یہ حقیقت تسلیم کرنا کہ، قبول کرنا کہ۔ ـــ ہ/علی/عن: کسی بات وغیرہ پر اطمینان یا خوشی محسوس کرنا یا اس کا اظہار کرنا۔ ـــ ہ ل: کی کے لئے آرزو کرنا، تمنا رکھنا، کو کے لئے چاہنا۔ رَضِیَ لنفسِه ب: اپنے لئے کوئی چیز روا رکھنا۔ ما رضی لها المَذَلَّةَ: اس کی ایسی کوئی خواہش نہ تھی کہ اس عورت کی خودداری کو صدمہ پہنچائے۔ رَضِیَ اَوْ اَبَی: خواہ وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ رَضِیَ اللّٰہُ عنه: اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو۔ رَضِیَ من الغنیمةِ بالایاب: مال غنیمت کے بغیر واپسی پر قناعت کرنا، اپنی جان بچانے پر خوش ہونا۔ رَضَّی ہ: کو مطمئن کرنا، خوش کرنا، کی دلجوئی کرنا، کو محظوظ کرنا، کو معاوضہ دینا، کی تلافی کرنا، کو عوض دینا، کو کفارہ ادا کرنا۔ رَاضَی ہ: کو مطمئن کرنے کے درپے ہونا، کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، کو منانا، راضی کرنا، کی خوشنودی حاصل کرنا، کو خوش کر لینا، کا دل ہاتھ میں لینا، کو آمادہ کر لینا، اپنے اوپر مہربان کرنا، کی نوازش حاصل کرنا۔ اَرْضَی ہ: کو مطمئن کرنا، خوش کرنا، کی دلجوئی کرنا، کی خواہش پوری کرنا۔ تَرَضَّی ہ: کو مطمئن کرنے کے درپے ہونا، کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، کو منانے، راضی کرنے یا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کو خوش کرنا، منانا، راضی کرنا، کا دل ہاتھ میں لینا، کو ٹھنڈا کرنا، اطمینان دلانا، کی ڈھارس بندھانا، کو تسکین دینا۔ تَرَاضَی: تصفیہ کر لینا، شرائط مان لینا، سمجھوتہ کرنا۔ اِرْتَضَی ہ: سے/پر مطمئن ہونا، پر قناعت کرنا، خوش ہونا، سے متفق ہونا، کی اجازت یا منظوری دینا، پر رضامندی ظاہر کرنا، کو پسند کرنا، کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، کو منظور کرنا۔ اِسْتَرْضَی ہ: کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنا، کی ہمدردی حاصل کرنے، کا دل ہاتھ میں لینے، کی تائید حاصل کرنے، کو طرف دار بنانے، ملانے یا منانے یا راضی کرنے کی کوشش کرنا، کو دھیما کرنا، کا جوش فرو کرنا، کو ٹھنڈا کرنا۔ ـ: اپنے آپ کو بامروت مدد کرنے والا ظاہر کرنا، خود کو مقبول بنانا، دل میں گھر کرنا، منظور نظر بننا، عزیز یا مقبول ہونا، مورد عنایات ہونا، نوازش یا کرم حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ رِضًی و رِضًا: قناعت، صبر و شکر، اطمینان، خوشی، راحت، حالت اطمینان، تسکین، دلجمعی، رضامندی، سمجھوتہ، مفاہمت، راضی نامہ، منظوری، اجازت، خوشنودی، موافقت، پسند، ہمدردی، نوازش۔ عَن رِضًی: دل سے، خوشی سے، بلا تامل، فوراً۔ سَرِیعُ الرِضَی: آسانی سے مان جانے والا، جس کو خوش کرنا آسان ہو۔ رَضِیّ جمع اَرْضِیَاء: مطمئن، رضامند، خوشدل، آسودہ خاطر، صابر، قانع، راضی، خوشگوار، خوش طبع، دلکش، دلپذیر، سہانا۔ بنفسٍ رَضِیَّةٍ: خوشی سے، خوش خوش۔ رِضْوان: رضامندی، منظوری، اجازت، خوشنودی، موافقت، سمجھوتہ، مفاہمت، راضی نامہ، پسند، نوازش، مہربانی، کرم، خوشی، سرور۔ مَرْضَاة: اطمینان یا تسکین کا ذریعہ، اطمینان، خوشی۔ تَرْضِیَة: اطمینان، تسکین، معاوضہ۔ رِضَاء: قناعت، خوشی، راحت، حالت اطمینان، اطمینان مفاہمت، منظوری، رضامندی، اجازت، پسند، کفارہ، منت، صدقہ، مصالحت، اتفاق، میل ملاپ۔ بالمُرَاضَاةِ: منصفانہ ذریعہ سے ازراہ لطف، ملنساری سے۔ اِرْضَاء: اطمینان، تسکین، (دعوی، خواہش کی) تکمیل۔ صعبُ الاِرْضَاء: جسے خوش کرنا مشکل ہو، تنک چڑھا، تنک مزاج۔ تَرَاضٍ: باہمی رضامندی۔ اِسْتِرْضَاء: مصالحانہ رویہ، صلح جوئی، رضاجوئی، مصالحت۔ اِسْتِرْضَائِی: مصالحت کن، مائل بہ مصالحت، صلح جو، مصالحت آمیز، صلح جویانہ۔ رَاضٍ جمع رُضَاة: مطمئن، قانع، اتفاق کرنے والا، رضامندی ظاہر کرنے والا، منظوری دینے والا، (تجویز) مان جانے والا، راضی، رضامند، آمادہ، تیار، خوشگوار، سہانی یا دل پذیر (زندگی)۔ مُرْضٍ: خاطر خواہ، حسب خواہش، تسلی بخش، قابل اطمینان، اطمینان دہ، خوشگوار، خوش کن، دلجوئی و تسکین دہ، کافی۔

رطّ: ۱۔ اَرَطَّ اِرْطَاطًا: بے وقوف ہونا، احمق ہونا۔ اِسْتَرَطَّهُ: کو بے وقوف جاننا، سمجھنا۔ الرَطِیط جمع رِطَاط: احمق، حماقت۔ الرَطَائِط: بے وقوف لوگ۔

۲۔ اَرَطَّ اِرْطَاطًا: چیخنا، چلانا، شور مچانا۔ الرَطِیط جمع رِطَاط: شور و غل، چیخ پکار۔

۳۔ اَرَطَّ اِرْطَاطًا فی مقعده: اپنی نشست پر جم کر بیٹھنا۔

رطأ: رَطَأَ ـ رَطْأً القومَ: قوم کو ناپسندیدہ امر میں الجھا دینا۔ اِسْتَرْطَأَ الرجلُ: احمق ہونا۔ ـــ ہ: کو احمق جاننا۔ الرَطَا: حماقت۔ الرَطِی جمع رِطَاء مونث رَطِیئَة و رَطْآء: احمق۔

رطب: ۱۔ رَطَبَ ـ رَطَابَةً البُسْرُ: کچی کھجوروں کا پکنا۔ ـــ ہ: کو تازہ پکی کھجوریں کھلانا۔ رَطُبَ ـ رَطَابَةً البُسْرُ: کچی کھجوروں کا تازہ پکی کھجوریں بننا۔ رَطَّبَ هُ: کو تازہ پکی کھجوریں کھلانا۔ ـــ البُسْرُ: کچی کھجوروں کا تازہ پکی کھجوریں بننا۔ اَرْطَبَ البُسْرُ: کچی کھجوروں کا تازہ پکی کھجوریں بننا۔ ـــ النخلُ: کھجوروں کے پکنے کا موسم آنا۔ ـــ القومُ: قوم کے کھجوروں کے درختوں کا پکی کھجوریں لانا۔ الرُطَب واحد رُطَبَة جمع رِطَاب و اَرْطَاب: پختہ تازہ کھجور، کھجوریں۔

۲۔ رَطَبَ ـ رَطْبًا و رُطُوبًا الدابةَ: جانور کو تازہ سبز گھاس چرانا۔ رَطِبَ ـ و رَطُبَ ـ رُطُوبَةً و رَطَابَةً: تر ہونا، نم ناک ہونا، نرم و نازک ہونا۔ رَطَّبَ الثوبَ و نحوَهُ: کپڑے وغیرہ کو تر کرنا۔ اَرْطَبَ الثوبَ و نحوَهُ: کپڑے وغیرہ کو تر کرنا۔ ـــت الارضُ: زمین کا بہت سبز گھاس اور تازہ سبزی والا ہونا۔ تَرَطَّبَ: تر ہونا، بھیگنا، نم ناک ہونا۔ کہا جاتا

ہے: تَرَطَّبَ لِسانی بذکرِكَ: میں تمہارے ذکر میں رطب اللسان ہوں۔ رُطْب و الرُّطُب: سبز گھاس کا قطعہ۔ الرَّطْب و الرَّطِیب: تر، نمناک، ملائم و نازک ٹہنی یا پر وغیرہ۔ کہا جاتا ہے: غلامٌ رَطْبٌ: عورتوں کی سی نزاکت رکھنے والا لڑکا۔ جاریةٌ رَطْبَةٌ: نرم و لچکدار لڑکی۔ عیشٌ رَطِیب خوشحالی کی زندگی۔ الرَّطْبَة (ن) بنفشی مائل رنگ کے پھولوں والا گھاس جیسا پودا۔ المِرْطاب ہوا کی رطوبت کا درجہ معلوم کرنے کا آلہ جسے مِیزانُ الرطوبة بھی کہا جاتا ہے۔ المُرَطِّبات: ہلکے مشروبات (جو حلق کو تر کریں)۔

۳۔ المَرْطَبان: (دوائیں اور گاڑھے رس رکھنے کا) مرتبان۔

⭘ رَطِبَ ـَـ و رَطُبَ ـُـ رُطُوبَةً و رَطَابَةً: گیلا ہونا، تر ہونا، نم ہونا، مرطوب ہونا، سیلا یا نمناک ہونا۔ رَطَّبَ ہ: کو گیلا کرنا، تر کرنا، نم کرنا، مرطوب کرنا۔ ـــ: ٹھنڈا ہونا، تازہ دم ہونا۔ ـــ القلبَ: دل کو تسکین دینا، شاد کرنا، نرم کرنا، ملائم کرنا، تسلی دینا، تسکین دینا۔ ـــ: شاداب ہو جانا، رسیلا ہو جانا، پرلطف ہو جانا، میٹھا ہو جانا، نرم ہو جانا، پک جانا (کھجوروں کا)۔ اَرْطَبَ ہ: کو گیلا کرنا، تر کرنا، نم کرنا۔ ـــ: کھجوروں کا رسیلا ہو جانا، میٹھا ہو جانا، پک جانا۔ تَرَطَّبَ: گیلا ہونا، تر ہونا، نرم ہونا، ٹھنڈا ہونا، تازہ دم ہونا، شاد ہونا، تسکین پانا، نرم ہونا، تسلی پانا۔ رَطْب: تر، گیلا، نم، نمناک، تازہ، ٹھنڈا، رسیلا، رس دار، رس بھرا، شیرے دار، پرلطف، نرم و نازک (پودا)۔ رُطَب: اسم جنس واحد رطبة جمع اَرْطاب و رِطاب: تازہ، پکی کھجوریں۔ رَطِیب جمع رِطاب: تر، نم، گیلا، نم ناک، تازہ، ٹھنڈا، رس دار، رس بھرا، رسیلا، شیرے دار، نرم و نازک (پودا)۔ رُطُوبة: تری، نمی، سیل، رطوبت، گیلا پن، ہوا میں رطوبت، نمی۔ راطِب: تر، نم، گیلا، مرطوب، نمناک۔ مُرَطِّبات: کسی عام جگہ یا تقریب میں فراہم کی جانے والی خوراک اور مشروبات کی ہلکی مقداریں۔

رطس: رَطَسَ ـُـ رَطْساً ہ: کو تھپڑ مارنا۔ اِرْطَسَّت الحجارةُ علیه: پر پتھروں کا تہ بہ تہ ہونا۔

رطل: ا۔ رَطَلَ ـُـ رَطْلاً الشيءَ: کو ہاتھ میں لے کر اس کے وزن کا اندازہ کرنا۔ رَطَّلَ الشيءَ: کا رطل پیمانہ سے وزن کرنا۔ راطَلَ: رطلوں سے بیچنا۔ الرَّطْل و الرِّطْل جمع اَرْطال: ایک وزن بارہ اوقیہ یا ۳۵۶۴ گرام کا۔ (ارامی لفظ)۔

۲۔ رَطَلَ ـُـ رَطْلاً الرجلُ: دوڑنا۔ الرَّطْل و الرِّطْل: سبک و تیز رفتار گھوڑا۔ الرِّطْلَة: سبک رفتار گھوڑی۔ رِطْل کا مونث۔

۳۔ رَطَّلَ الشعرَ: بالوں میں تیل لگا کر ان کو نرم کرنا، ان میں کنگھی کرنا اور کھلا چھوڑ دینا۔ ـــ و اَرْطَلَ الرجلُ: ڈھیلے کانوں والا ہونا۔ الرَّطْل و الرِّطْل من الرجال: کمزور لاغر آدمی۔ المُرَطَّل من الرجال: نرم، لمبا آدمی۔

۴۔ الرَّطْل: قریب البلوغ نرم و نازک اور پتلا دبلا لڑکا۔ ـــ من الرجال: بیوقوف آدمی، بوڑھا اور کمزور آدمی۔ الرِّطْل: قریب البلوغ نرم و نازک اور دبلا پتلا لڑکا۔ الرُّطَیْلاء (ح): (الرُّتَیْلاء) کیڑے مکوڑے جیسے مکڑی مکھی وغیرہ۔

⭘ رَطْل جمع اَرْطال: وزن کا پیمانہ (مصر میں ۴۴۹،۲۸ گرام) شام میں ۳،۲۰۲ کلو گرام، بیروت اور الپو میں ۲،۵۶۶ کلو گرام کا)۔

رطم: ا۔ رَطَمَ ـُـ رَطْماً ہ: کو کیچڑ میں ڈالنا یا ایسی مشکل میں پھنسانا جس سے خلاصی دشوار ہو۔ ـــ و اَرْطَمَ في قعودِهِ: جم کر بیٹھنا۔ اِرْتَطَمَ: کیچڑ میں گر جانا یا ایسے معاملہ میں پھنس جانا جس میں معلوم نہ ہو کہ اس سے کیسے نپٹے۔ ـــ في الامر: کسی امر میں الجھ جانا۔ ـــ علیه الامرُ: پر کوئی امر مشتبہ ہونا، گڑبڑ ہونا۔ ـــ الشيءُ: کا ڈھیر لگنا، انبار لگنا۔ الرُّطْمَة: ایسا معاملہ جس سے نپٹنے کی ترکیب سجھائی نہ دے۔ امراةٌ مَرْطُومَةٌ: وہ عورت جس پر گناہ کی تہمت ہو۔

۲۔ رُطِمَ البعیرُ: اونٹ کو قبض ہو جانا۔ تَرَطَّمَ السلحَ: پاخانہ روکنا۔ الرُّطام: قبض۔

۳۔ اَرْطَمَ الرجلُ: خاموش رہنا۔

⭘ رَطَمَ ـُـ رَطْماً ہ في: کو (کسی ناخوشگوار چیز) میں پھنسانا، الجھانا، مبتلا کرنا، گھسیٹنا۔ اِرْتَطَمَ في: میں گرنا، گر پڑنا، لڑھک جانا، الجھ جانا، پھنس جانا۔ ـــ: ساتھ لگے رہنا، چسپاں ہونا، (جہاز کا) ساحل پر چڑھ جانا۔ ـــ ب: سے ٹکرا جانا۔ مَرْطَم: (سمندر میں) بند، پشتہ، مصنوعی بندرگاہ، حفاظتی بند۔

رطن: رَطَنَ ـُـ رَطَانَةً و رِطانةً له و راطَنَهُ مُراطَنَةً: سے عجمی زبان میں بات کرنا۔ تَراطَنَ القومُ و تَراطَنُوا فیما بینهم: آپس میں عجمی زبان میں گفتگو کرنا۔ الرُّطَیْنَی: غیر مفہوم کلام۔ کہا جاتا ہے: ما رُطَیْناكَ هذه: یہ تمہاری کیسی گفتگو ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔

⭘ رَطَنَ ـُـ رَطانَةً و رِطانَةً: ایسی زبان بولنا جو سمجھ میں نہ آئے، لایعنی گفتگو کرنا، بے معنی باتیں کرنا، بڑ ہانکنا۔ رَطانَة و رِطانَة: لایعنی گفتگو، غیر ملکی بولی، کسی خاص طبقہ کی زبان یا محاورہ۔ رُطَیْنَی: بے معنی گفتگو، غیر ملکی بولی، کسی خاص طبقہ کی زبان یا محاورہ۔

رع: ا۔ رَعَّ ـَـ رَعّاتِ الریحُ: ہوا کا ٹھہرنا۔ الرَّعاع: رذیل لوگ۔ الرَّعاعة: بے عقل اور بغیر دل والا۔ (ح): شتر مرغ۔

۲۔ رَعْرَعَ الماءُ: پانی کا سطح زمین پر لہریں مارنا۔ ـــ الفرسَ: گھوڑے پر اسے سدھانے کے لئے سوار ہونا۔ تَرَعْرَعَ الماءُ او السرابُ: پانی یا سراب کا جنبش و حرکت میں ہونا۔ ـــتِ السِنُّ: دانت کا ہلنا۔ الرَّعْراع: بزدل۔

۳۔ رَعْرَعَهُ اللهُ: اللہ کا کسی چیز کو اگانا۔ تَرَعْرَعَ الصبيُّ: بچہ کا بڑھنا، جوان ہونا۔ الرُّعْرُع و الرَّعْرَع جمع رَعارِع و رَعاريع: خوبصورت قد و جوانی والا۔ الرَّعْراع جمع رَعارِع و رَعاريع: خوبصورت قد و جوانی والا، لمبا نر کل۔

⭘ رَعاع: بھیڑ، اژدہام، ہجوم، انبوہ، رذیلوں کی ٹولی، جم غفیر، بے ترتیب مجمع، عوام الناس، تیل تمبولی، نیچ ذات کے لوگ، گنوار، ردی یا نکمی چیز، فسادیے، دنگا کرنے والے، غنڈے، بازاری لوگ۔ رَعْرَعَ: جوانی کا آغاز ہونا۔ تَرَعْرَعَ: بڑھنا، پھیلنا، پھولنا، پنپنا، فروغ پانا، ترقی کرنا۔ رَعْرَع و رُعْرُع جمع رَعارِع: عنفوان شباب میں۔

رعب: ا۔ رَعَبَ ـَـ رَعْباً و رُعْباً: ڈرنا۔ ـــ الرجلَ: کو ڈرانا۔ رَعَّبَ تَرْعِیباً و تَرْعاباً الرجلَ: کو ڈرانا۔ اِرْتَعَبَ: ڈرنا۔ الرُّعْب و الرُّعُب: خوف، ڈر۔ کہا جاتا ہے: فَعَلَ ذلكَ رُعْباً لا رُغْباً: اس نے وہ کام خوف سے کیا، رغبت سے نہیں کیا۔ سیلٌ راعِبٌ: خوف زدہ کرنے والا زبردست سیلاب۔ الرَّعِیب: خوف زدہ، ڈرا ہوا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ رعیبُ العین و مَرْعُوبُ العین: وہ بزدل آدمی جو ہر چیز کو دیکھتے ہی ڈر جائے۔ الرَّعّابَة: لوگوں کو بہت ڈرانے والا۔ الرُّعْبُوب جمع رَعابِیب: بزدل۔ المَرْعَبَة: دہشت ناک طور پر چونک اٹھنا۔ التِرْعابَة: بہت ڈرنے والا۔ آپ کہتے ہیں: هو في السلم تِلْعابة و في الحرب تِرْعابة: وہ زمانہ امن میں بہت کھیلنے والا ہے اور جنگ میں بہت ڈرنے والا ہے۔

۲۔ رَعَبَ ـَـ رَعْباً الإناءَ او الحوضَ: برتن یا حوض کو بھرنا۔ رَعَّبَ تَرْعِیباً و تَرْعاباً الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

۳۔ رَعَبَ ـَـ رَعْباً السنامَ و نحوَهُ: کوہان وغیرہ کے لمبے لمبے ٹکڑے کاٹنا۔ رَعَّبَ تَرْعِیباً و تَرْعاباً السنامَ: کوہان کے لمبے لمبے ٹکڑے کاٹنا۔ التَّرْعِیبَة جمع

تَرَاعِیب: کوہاں کا ایک ٹکڑا۔

۴۔رَعَّبَ تَرْعِیبًا و تَرْعَابًا فلانًا: کے تیر میں پیکان لگانے کی جگہ کو درست کرنا۔ الرُّعْب و الرُّعُب جمع رِعَبَة: تیر میں پیکان لگانے کی جگہ۔

۵۔الرُّعْب: جادو کا منتر۔ الرَّعَّاب: جادوگر۔ الرَّعِیب و المُرْعَب: چربی دار، موٹا۔ الرُّعْبُوب والرُّعْبُوبَة والرِّعْبِیب من الجواری: نرم و نازک اندام لڑکی۔

۶۔رَعْبَلَ اللحمَ: گوشت کے پارچے بنانا تاکہ آنچ کے اثر سے اچھی طرح پک جائے۔۔۔ الثوبَ: کپڑا پھاڑنا۔ تَرَعْبَلَ اللحمُ: گوشت کے پارچے بننا تاکہ آنچ سے پک جائیں۔۔۔ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا، بوسیدہ ہونا۔ الرَّعْبَل من النساء: پھٹے پرانے کپڑے پہننے والی عورت۔ الرِّعْبَلَة جمع رَعَابِل: پرانا کپڑا۔ الرُّعْبُولَة جمع رَعَابِیل: پرانا کپڑا۔ کہا جاتا ہے: ثوبٌ رَعَابِیل: پھٹا پرانا کپڑا، پھٹا ہوا چیتھڑا، گوشت کا پارچہ۔

۷۔رَعْبَلَ الرجلُ: بیوقوف عورت سے شادی کرنا۔ الرَّعْبَل من النساء: بےوقوف عورت۔

۸۔جملٌ رَعْبَل: موٹا اونٹ۔ الرَّعْبَلَة و الرَّعْبَلِیل من الریاح: ایک رخ سے نہ چلنے والی ہوا۔

○ رَعَبَ ۔رُعْبًا: گھبرانا، دہشت زدہ ہونا، ہول کھانا، سخت ڈرنا، خوف زدہ ہونا، خائف ہونا۔ رَعَّبَ و أَرْعَبَ ہ: کو دہشت زدہ کرنا، ڈرانا، خائف کرنا، ہولا دینا، میں دہشت پیدا کرنا۔ اِرْتَعَبَ: ڈر جانا، گھبرا جانا، دہشت زدہ ہو جانا، خوف زدہ ہو جانا۔ رُعْب: سخت خوف، اندیشہ، خوف، کھٹکا، ہول، دہشت۔ اِرْعَاب: ڈرانا، دھمکانا۔ رَاعِب: دہشناک، خوفناک، ہولناک۔ مَرْعُوب: دہشت زدہ، خوف زدہ، ڈرا ہوا، ہول کھایا ہوا۔ مُرْعِب: خوفناک، ڈراؤنا، ہولناک، دہشت ناک، بہت بڑا، ناگوار۔

رعث: اورَعَثَ ۔رَعْثًا و رَعِثَ ۔رَعَثَات العنزُ: بکری کا کنارہ گوش سے سفید ہونا۔ تَرَعَّثَ و اِرْتَعَثَت المرأةُ: عورت کا بالیاں پہننا۔ الرَّعْث و الرَّعَث: رنگین پشم جو ہودج کے اوپر لٹکاتے ہیں، مختلف قسم کے پھندنے جو پالکی کے اوپر لٹکاتے ہیں۔ رَعْثُ الرُّمَّان: شگوفہ انار کی کلی۔ الرَّعْثَة و الرَّعَثَة جمع رِعَاث و جمع رُعُث: کان کی بالی، مرغ کی کلغی۔ الرَّعْثَاء: بکری جس کے دونوں کانوں کا کٹا ہوا حصہ لٹکتا ہو۔

رعج: اورَعَجَ ۔رَعْجًا و رَعَجَانًا ہ: کو غنی کرنا۔ رَعِجَ ۔رَعَجًا المالُ او العددُ: مال مویشی اور گنتی کا بہت ہونا۔۔۔ الوادی: وادی کا بھر جانا۔ اَرْعَجَ ہ: کو غنی کرنا۔۔۔ الرجلُ: بہت مال اور مویشیوں والا ہونا۔ اِرْتَعَجَ المالُ: مال (مویشی) بکثرت ہونا۔۔۔ الوادی: وادی کا بھر جانا۔ الرَّعْج: بہت مویشی۔

۲۔رَعَجَ ۔رَعْجًا و رَعَجَانًا ہ: کو بےکل و بےچین کرنا۔۔۔ البرقُ: بجلی کا لگاتار چمکنا۔ اَرْعَجَ ہ: کو بےکل و بےچین کرنا۔ اِرْتَعَجَ الرجلُ: کانپنا۔ کہا جاتا ہے: خرجوا ولهم ارتعاج: وہ ٹھاٹھیں مارتے نکلے۔۔۔ البرقُ: بجلی کا لگاتار چمکنا۔

رعد: اورَعَدَ ۔رَعْدًا و رُعُودًا السحابُ: بادل کا گرجنا، کڑکنا۔ کہا جاتا ہے: رَعَدَ لی فلانٌ و بَرَقَ: فلاں شخص نے مجھے دھمکیاں دیں۔ رعدت المرأة و برقت: عورت کا بناؤ سنگھار کر کے سامنے آنا۔ اَرْعَدَ الرجلُ: کو گرج سے تکلیف ہونا، گرج سننا۔۔۔ زیدًا: زید کو ڈرانا دھمکانا۔۔۔ ہُ الخوفُ: کو خوف کا لرزا دینا، کپکپا دینا۔ اُرْعِدَ: پر کپکپی طاری ہونا، لرزہ محسوس کرنا، کپکپاہٹ میں مبتلا ہونا۔ تَرَعَّدَ: حرکت کرنا، کانپنا۔ اِرْتَعَدَ: مضطرب ہونا، کانپنا۔ الرَّعْد (مص): بادل کی گرج۔ کہا جاتا ہے: جاء بذات الرعد و الصلیل: وہ لڑائی لایا۔ الرِّعْدَة و الرُّعْدَة: کپکپی جو خوف وغیرہ سے لاحق ہو، لرزہ۔ الرَّعَّاد: بہت گرجنے والا بادل، بہت بولنے والا (آدمی)۔ (ح): ایک قسم کی مچھلی جسے چھونے سے ہاتھ کانپنے لگتا ہے، اسے سمکةُ الرعد بھی کہا جاتا ہے۔ الرَّاعِدَة جمع رَوَاعِد: گرجنے والا بادل۔ صَلِفٌ تحت الراعدة: وہ شخص جو بکواسی ہو، کام کی بات نہ کرتا ہو۔ ذات الرَّوَاعِد: مصیبت۔ الرَّعَّادَة: بہت بولنے والا۔

۲۔رَعْدَدَ: اصرار کے ساتھ مانگنا۔ تَرَعْدَدَ: پر کپکپی طاری ہونا۔ الرِّعْدِید و الرِّعْدِیدَة جمع رَعَادِید: بزدل، بہت کانپنے والا۔ نباتٌ رِعْدِیدٌ: نرم و نازک پودا۔

○ رَعَدَ ۔رَعْدًا: گرجنا، کڑکنا۔ ل ب: کو سے ڈرانا، خوف دلانا، ہیبت زدہ کرنا۔ اَرْعَدَہ: کو لرزانا، کپکپا دینا۔ اُرْعِدَ من: سے لرزنا، کانپنا، تھرانا، کوفت ہونا، کپکپانا، تھرتھرانا۔ اِرْتَعَدَ: کانپنا، لرزنا، تھرانا، پر رعشہ طاری ہونا۔ رَعْد جمع رُعُود: گرج، کڑک۔ رِعْدَة و رُعْدَة: تھرتھراہٹ، لرزہ، کپکپی، رعشہ۔ رَعَّاد: (اسم جنس واحد رعدہ) برقی چمک۔ رِعْدِید جمع رَعَادِید: بزدل، ڈرپوک، بےہمت۔

رعس: اورَعَسَ ۔رَعْسًا: کانپنا، لرزنا، تھکاوٹ وغیرہ سے کمزور چال چلنا۔ رَعْسًا و رَعَسَانًا رأسَهُ: سر کو بڑھاپے کے سبب ہلانا۔ اَرْعَسَ ہُ: کو کپکپا دینا، لرزا دینا۔ تَرَعَّسَ و اِرْتَعَسَ: کانپنا، لرزنا۔ الرَّعِیس: کانپنے والا، چلنے میں ڈگمگانے والا۔ الرَّعُوس: خوشی یا نیند کی وجہ سے سر ہلانا والا۔ ناقةٌ رَاعِسَةٌ: چست اونٹنی۔

۲۔المِرْعَس: خسیس آدمی۔

رعش: اورَعِشَ ۔رَعَشًا و اِرْتَعَشَ: کانپنا، کو لرزہ پڑنا، لرزہ براندام ہونا۔ صفت رَعِش و رعیش۔ رَعَّشَ و اَرْعَشَ ہ: کو کپکپا دینا، لرزہ براندام کرنا، لرزانا، پر لرزہ ڈالنا۔ الرَّعِش و الرِّعْشِیش: بزدل، لڑائی یا بھلائی کے کاموں کی طرف جانے میں جلدی کرنے والا۔ الرَّعْشَة: جلدی، عجلت۔ الرُّعَاش: مرض کے باعث انسان کو لاحق ہونے والا رعشہ۔ ناقةٌ رَعْشُوش: بڑھاپے کے سبب سر ہلنے والی اونٹنی۔ المُرَعَّش و المِرْعَش (ح): سفید کبوتر، جو ہوا میں اونچی اڑان کرتا ہے۔ الرَّعْشَاء من النوق: تیز رفتاری کی وجہ سے جھوم کر چلنے والی اونٹنی۔۔۔ من النعام: تیز رفتار شتر مرغ۔

۲۔رَعَّشَ و اَرْعَشَ ہ: کو عاجز کرنا۔

۳۔الرَّعْشَن: کانپنے والا، بزدل، جلدباز۔

○ رَعَشَ ۔رَعْشًا و رَعِشَ ۔رَعَشًا: کانپنا، ہلنا، لرزنا۔ اَرْعَشَ ہ: کو کپکپا دینا، لرزہ براندام کرنا، لرزانا۔ اِرْتَعَشَ: کانپنا، ہلنا، لرزنا، کپکپانا، لرزہ براندام ہونا، پر لرزہ پڑنا۔ رَعْشَة: تھرتھراہٹ، کپکپی، رعشہ (زمین کا) ہلنا، زلزلہ۔ رَعْشَةُ الحُمّٰی: بخار کی کپکپی۔ اِرْتِعَاش: تھرتھراہٹ، کپکپی، کپکپاہٹ، زلزلہ۔

رعص: اورَعَصَ ۔رَعْصًا و اَرْعَصَ الشیءَ: کو حرکت دینا، ہلانا، کھینچنا۔۔۔ علیه جلدَهُ: کی کھال کا پھڑکنا۔ تَرَعَّصَ و اِرْتَعَصَ: پیچ کھانا، ہلنا۔۔۔ علیه جلدُهُ: کی کھال پھڑکنا۔۔۔ الجَدْیُ: بکری کے بچہ کا خوشی سے چھدکنا، اچھلنا۔

○ تَرَعَّصَ و اِرْتَعَصَ: درد سے پہلو بدلنا، اینٹھنا، کو اینٹھن ہونا، تشنج ہونا، درد سے لوٹ پوٹ ہونا، چکر کھانا، کنڈل بنانا، بل کھاتے ہوئے چلنا۔

رعظ: اورَعَظَ ۔رَعْظًا السهمَ: تیر میں پیکان لگانے کی جگہ بنانا، پیکان کی جگہ توڑنا۔ رَعَظَ الوتدَ: کیل کو اکھاڑنے کے لئے ہلانا۔ اَرْعَظَ السهمَ: تیر میں پیکان لگانے کی جگہ بنانا، پیکان کی جگہ توڑنا۔ الرُّعْظ جمع اَرْعَاظ: تیر میں پیکان لگانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: کسر علیه اَرْعَاظَ النبال: ...

اس پر بہت غضبناک ہوا۔

۲۔رَعَظَ دُعن کذا: کو میں سست بنانا، سے میں جلدی کرانا۔اَرْعَظَ فلاناً: کو سست بنانا، سے جلدی کرانا۔

رعف: اُو رَعَفَ -رَعْفًا الفرسُ الخیلَ: گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں سے آگے نکل جانا۔۔۔ رَعْفًا و رُعَافاً الرجلُ: کی نکسیر پھوٹنا۔رَعِفَ -رَعَفًا الدمُ: ناک سے نکسیر کا خون بہہ پڑنا، نکسیر پھوٹنا۔۔۔ رُعْفًا و رُعَافًا الرجلُ: کی نکسیر پھوٹنا۔اَرْعَفَ ہٗ: سے جلدی کرانا۔۔ القِربَۃَ: مشک کو چھلکنے تک بھر دینا۔۔ القلمَ: قلم میں سیاہی زیادہ لگا لینا۔اِرْتَعَفَ: آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔اِسْتَرْعَفَ: آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔۔ ت الحَصیٰ رِجْلَہٗ: کنکریوں کا کسی کے پاؤں کو خون آلودہ کرنا۔الرُّعْف (مص): نیزہ مارنے کی پھرتی۔الراعِف (فا) جمع رَوَاعِف: دوسرے گھوڑوں سے آگے نکل جانے والا گھوڑا، ناک کا کنارہ، پہاڑ کی چوٹی۔الرُّعَاف: نکسیر۔الرَّعُوف و الرَّاعُوف و الراعُوفَۃ و الأُرْعُوفَۃ من البئر: کنویں کا پتھر جس پر کھڑے ہو کر پانی نکالیں۔الرَّعَّاف: بہت آگے بڑھنے والا، وہ شخص جس کو نکسیر پھوٹنے کی بڑی شکایت ہو، جس کی نکسیر اکثر پھوٹتی رہتی ہو۔الرَّوَاعِف: تیزے۔المَرَاعِف: ناک اور اس کے آس پاس کی جگہ۔کہا جاتا ہے فعلتہ علی الرغم من مَرَاعِفِہٖ: میں نے اس کو اس کی مرضی کے خلاف کیا۔یہی معنی علی رغم انفہ کے بھی ہیں یعنی اس کی مرضی کے خلاف۔المُسْتَرْعِف من الخیل: آگے رہنے والا گھوڑا۔

۲ اُو رَعَفَ -رَعْفًا بہ البابُ: اچانک اندر آجانا۔

۳۔الرُّعَاف: بہت بارش۔الرُّعُوف: ہلکی بارشیں۔الرُّعَافِیّ: بہت فیاض بارش۔

○ رَعُفَ -و رَعِفَ -: رَعَفَ اَنْفُہٗ: کی نکسیر پھوٹنا۔رُعَاف و رَعِیف: نکسیر۔رَاعِف: ناک کی نوک۔

رعق: رَعَقَ -رُعاقاً و رَعِیقًا بطنُ الدابّۃِ: دوڑتے وقت جانور کے پیٹ سے آواز نکلنا۔

رعل: اُو رَعَلَ -رَعْلاً الشیءَ: کا شگاف فراخ کرنا۔۔ فلاناً: کو زور سے تیر مارنا۔اَرْعَلَ ہٗ: کو زور سے تیر مارنا۔

۲ اُو رَعِلَ -رَعَلاً: احمق ہونا۔الأَرْعَل مونث رَعْلاء جمع رُعْل: احمق۔الرَّعَالۃ: حماقت۔

۳ اُو رَعِلَ -رَعَلاً النباتُ: پودے کی شاخوں کا لمبا ہو کر لٹکنا۔صفت اَرْعَل۔رَعَلَ الکرمُ: انگور کی بیل کا پھوٹنا۔رَعَلَ الرجُلِ: کپڑے۔الرُّعْلَۃ جمع رُعُل: انگور کی کونپل۔الرَّعْلَۃ جمع رِعَال و اَرْعَال و اَرَاعِیل: اونٹنی یا بکری کا کان جسے چیرا گیا ہو۔الاَرْعَل: لمبی اور لٹکتی ہوئی شاخوں والا پودا۔نبتٌ اَرْعَل: لمبا پودا جس کی شاخیں لٹکتی ہوں۔ضربٌ اَرْعَل: سخت چوٹ جس سے گوشت کٹ کر لٹکنے لگے۔

۴۔اِسْتَرْعَلَ الرجلُ: حملہ میں سب سے آگے چلنا۔۔۔ ت الغنمُ: بکریوں کا آگے پیچھے چلنا۔الرَّعْل: پہاڑ کی نکلی ہوئی چوٹی۔الرُّعَال: ناک سے بہنے والا مادہ، ریزش۔الرَّعْلَۃ جمع رِعَال و اَرْعَال و اَرَاعِیل: گھوڑوں یا گائیوں کا گلہ جو آگے ہو۔(کہا جاتا ہے اقبلت الخیلُ رِعالاً و اَرَاعِیلَ: گھوڑے آگے آگے آئے)۔(ح) شترمرغ۔اراعیلُ الریاح او السحاب: ہواؤں کے پہلے جھونکے یا ابتدائی بادل۔الرَّعِیل جمع رِعَال: آگے رہنے والا گھوڑوں کا گلہ، آدمیوں کا گروہ یا پرندوں کا ٹولہ، لشکر کی وہ صف جو دوسری صف کے پیچھے رکھی جاتی ہے تاکہ ضرورت کے وقت اس کی حمایت کرے۔المَرْعَل: عمدہ مال۔المُسْتَرْعِل: گلہ سے نکلا ہوا جانور۔

۵۔الرَّعْل (ح): شہد کی زرکھی۔الرُّعْلَۃ: پھولوں کا گجرا، ہار۔الرَّعْلَۃ جمع رِعَال و اَرْعَال و اَرَاعِیل: عیال۔

○ رُعْلَۃ: پھولوں کا ہار۔رَعِیل جمع رِعَال: بکتر بند، موٹرائے ہوئے یا رسالہ کے فوجیوں کا دستہ۔

رعم: اُو رَعَمَ -رَعْماً الشیءَ: کی نگہبانی کرنا۔۔۔ الشمسَ: سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرنا۔الرُّعام: نظر کی تیزی۔

۲ اُو رَعَمَ -رُعاماً و رَعْمَ -رَعَامَۃً و اَرْعَمَ ت الشاۃُ: بکری کا بہت دبلا ہونا جس کی وجہ سے اس کے ناک کی ریزش بہنا۔صفت رَعُوم۔رَعَّمَ الشاۃَ: بکری کی ناک کی ریزش صاف کرنا۔الرُّعام جمع اَرْعِمَۃ: رینٹ، ناک، رطوبت۔

۳۔الرَّعْم: چربی۔اُمّ رِعْم (ح): بجو۔الرَّعُوم: نفس۔الرُّعَامۃ و الرُّعامَی (ن): ایک قسم کا درخت۔

○ رُعَام: گھوڑوں کی ایک بیماری جس میں جبڑوں کے نیچے ورم آجاتا ہے اور ناک بہنے لگتی ہے یہ بیماری انسان کو بھی لگ جاتی ہے۔

○ رَعْمَسِیس: رمسیس (مصری بادشاہوں کا نام)۔

رعن: اُو رَعَنَ -رَعْنًا و رَعِنَ -رَعَنًا و رَعُنَ -رُعُونَۃً: بیوقوف ہونا، کلام میں بیوقوف اور طیش والا ہونا۔صفت اَرْعَن۔

۲ اُو رَعَنَ -رَعْنًا: ڈھیلا ہونا۔۔ تہٗ الشمسُ: دھوپ سے کسی کے دماغ کا متاثر اور ڈھیلا ہو کر بیہوش ہو جانا۔رَعِنَ -رَعَنًا و رَعُنَ -رُعُونَۃً: ڈھیلا ہونا۔

۳۔الرَّعْن جمع رِعَان و رُعُون: پہاڑ کی چوٹی، لمبا پہاڑ۔الأَرْعَن: چوٹی والا پہاڑ، لمبی ناک والا۔الرَّعُون: رات کی تاریکی، سخت اور بہت حرکت کرنے والا۔

○ رَعُنَ -رُعُونَۃً: بہکا ہوا ہونا، بے عقل ہونا، سنکی ہونا، ہرزہ سرا ہونا۔رَعَنَ -رَعْنًا تہٗ الشمسُ: کسی پر لو کا اثر ہو جانا، گرمی کا اثر ہو جانا۔رَعْن: لو کا اثر، گرمی کا اثر، جمع رِعَان: پہاڑ کی چوٹی۔اَرْعَن: ہرزہ سرا، سنکی، بے عقل، غیر سنجیدہ، بے ادب، جلد باز، عاقبت نااندیش، بے پروا، غافل، کند ذہن، غبی، بیوقوف، احمق، سادہ لوح، ڈانوا ڈول، متلون، ناپائیدار۔رُعُونَۃ جمع رعونات: چھچھوراپن، بیہودگی، بے ادبی، غیر سنجیدگی، غفلت، بے پروائی، خودغرضی، بے مروتی۔

رعا: رَعَا -رَعْوًا و رِعْوَۃً و رَعْوَۃً و رُعْوَۃً: اپنی جہالت و غلطی سے باز آنا۔اِرْعَوَی اِرْعِوَاءً عن الجہل: جہالت سے رکنا، باز رہنا (صفت مُرْعَوٍ): رجوع کرنا۔الرَّعْوَی و الرُّعْوَی و الرُّعْیَا: جہالت سے رجوع۔

○ رَعَا -رَعْوًا و رَعْوَۃً و رُعْوَۃً و رَعْوَی و رُعْوَی و اِرْعَوَی مِن/عن: گناہ، غلطی وغیرہ سے باز رہنا۔۔: پچھتانا، پشیمان ہونا، ہاتھ ملنا، بڑی مشکل یا شکوک وشبہات کے بعد کوئی بات سمجھ جانا یا قبول کر لینا۔اِرْعَوَی عن غَیِّہٖ: پچھتانا، پشیمان ہونا، راہ راست پر آجانا۔رَعْوَی و رُعْوَی: پشیمانی، پچھتاوا، ترمیم، تبدیلی، تفسیر، انابت، رجوع الی اللہ۔

رعی: اُو رَعَی -رَعْیًا و رِعَایَۃً و مَرْعًی ت الماشیۃ الکلأَ: مویشیوں کا گھاس چرنا۔۔۔ الماشیۃَ: مویشیوں کو گھاس چرنے کے لئے کھلا چھوڑ دینا۔رَاعَی ت الارضُ: زمین کا بہت چراگاہ والی ہونا۔۔ الحمارُ الحُمُرَ: گدھے کا اور گدھوں کے ساتھ چرنا۔اَرْعَی اِرْعَاءً الماشیۃَ: مویشیوں کو چرانا۔۔ المکانَ: کسی جگہ کو چراگاہ بنانا۔۔۔ ت الارضُ: زمین کا بہت گھاس والی ہونا۔۔۔ اللّٰہُ الماشیۃَ: اللہ تعالیٰ کا مویشیوں کے لئے چارہ اگانا۔تَرَعَّی و اِرْتَعَی ت الماشیۃُ: مویشیوں کا چرنا۔اِسْتَرْعَی اِسْتِرْعَاءً الماشیۃَ: مویشی چرانے کے لئے کہنا۔

ہُ ماشیۃً: سے اپنے مویشی چرانے کے لئے کہنا یا رکھوالی کے لئے کہنا۔ ضرب المثل ہے: من استرعی الذئبَ فقد ظلمَ یہ ضرب المثل اس شخص پر بولی جاتی ہے جو خائن سے امانت داری کی امید رکھے۔ ضرب المثل کا معنی ہے: جس نے بھیڑیے سے رکھوالی کی خواہش کی اس نے ظلم کیا۔ الرِعْی جمع ارْعاء گھاس۔ رِعیُ الابل (ن) ایک پودا۔ ــــ الحمام (ن) ایک پودے کا نام۔ الرِعْیۃ: چرائی۔ المَرْعی (مص) جمع مَراعٍ: گھاس۔ ــــ والمَرْعاۃ: چراگاہ۔ راعِی الماشیۃ جمع رُعاۃ و رُعیان و رُعاء و رِعاء مونث راعِیۃ جمع رَوَاعٍ: چرواہا، مویشیوں کا نگہبان۔ راعی البستان و راعیۃ الاُتن: ٹڈیوں کی ایک قسم۔ راعیۃُ الرأس (ج): جوں۔ ــــ و رَوَاعی الشیب بڑھاپے کا آغاز۔ الرَعِیَّۃ چرنے والے مویشی۔ وہ مویشی جو چرائے جائیں۔ الرَعاوی و الرُعاوی لوگوں کے ارد گرد چرنیوالے مویشی۔ الرَعاوِیَّۃ ہر ایک کے چرائے جانے والے مویشی۔ الاَرْعاوِیَّۃ بادشاہ کے چرائے جانے والے مویشی۔

۲۔ رَعَی ـ رَعْیًا و رِعایۃً و مَرْعًی النجومَ: ستاروں کا مشاہدہ کرنا۔ راعَی مراعاۃً النجومَ ستاروں کا مشاہدہ کرنا۔ ــــ الامرَ معاملہ کے نتیجہ وانجام پر نظر رکھنا۔ ــــ الرجلَ کو اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے دیکھنا۔ راعِی الجوزاء و راعی النعائم (فلک): دوستاروں کے نام۔

۳۔ رَعَی ـ رِعایۃً الامیرُ رَعِیَّتَہُ اپنی رعایا پر سیاست رانی کرنا، مملکت کا انتظام سرانجام دینا۔ ــــ علیہ حرمتَہُ: کی حرمت کا لحاظ کرنا۔ ــــ الامرَ: معاملہ کی حفاظت کرنا۔ رَعَّی تَرْعِیَۃً ہُ: کو رعاہ اللہ (اللہ سے محفوظ رکھے) کہنا۔ راعَی مُراعاۃً الامرَ: کی حفاظت کرنا۔ اَرْعَی اِرْعاءً علیہ: پر شفقت و مہربانی کرنا۔ اِسْتَرْعَی اِسْتِرْعاءً الشیءَ: کو کسی شئے کی حفاظت کے لئے کہنا۔ الرَعْی: کہا جاتا ہے: رَعْیًا لک خدا تم کو بچائے رکھے۔ الرُعْیا و الرُعْوَی و الرَعْیاء و الرَعْوَی: حفاظت۔ الراعِی (فا) جمع رُعاۃ و رُعیان و رُعاء و رِعاء مونث راعِیۃ جمع رَوَاعٍ: حاکم جو لوگوں کے معاملات کا انتظام رے جیسے: اسقف (لاٹ پادری) بطریرک (سردار قبیلہ، اسقف) وغیرہ۔ المَرْعِیّ چرایا ہوا، حفاظت کیا ہوا۔ الرَعِیَّۃ جمع رَعایا قوم، لوگ، عام اُن جن پر کوئی حاکم ہو، کسی حاکم کے ماتحت رعایا۔ رَعِیَّۃ و رَعایا المَلِک بادشاہ کے ماتحت لوگ۔ رَعِیَّۃُ الاسقف جو کسی لاٹ پادری کے ماتحت ہوں۔

۴۔ راعَیتُہُ سمعی: میں نے اس کی طرف کان لگایا۔ کہا جاتا ہے: ھو لا یراعی الی قول احَدٍ: وہ کسی کی بات پر دھیان نہیں دیتا۔ اَرْعَیتُہ سمعی: میں نے اس کی بات کو توجہ سے سنا۔ اِسْتَرْعَی اِسْتِرْعاءً ہُ السمعَ: کسی سے کان رکھنے کے لئے کہنا، سے توجہ کرنے کی خواہش کرنا۔ الراعِی جمع رُعاۃ و رُعیان و رُعاء و رِعاء مونث راعِیۃ جمع رَوَاعٍ بہت الفت کرنے والا۔

۞ رَعَی ـ رَعْیًا و رِعایۃً و مَرْعًی: چرنا۔ ــــ ہ (جانوروں کے ریوڑ) کی دیکھ بھال کرنا۔ ــــ رَعْیًا و رِعایۃً ہ: کی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، کو بچائے رکھنا، کو زیر حمایت لینا۔ ــــ ہ/ ہ کی نگرانی یا نگہداشت کرنا۔ ــــ ہ کو بچائے رکھنا، کو کرنے کے لئے خاص طور پر فکر مند ہونا، کا بیڑہ اٹھانا، پر عمل کرنا، کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، کی طرف توجہ کرنا، پر کان دھرنا، کا خیال رکھنا، کا لحاظ کرنا، پر جما رہنا، کے حسب ہدایت یا حسب خواہش کام کرنا۔ ــــ عہدًا او معاھدۃً عہد و پیمان یا معاہدہ کے مطابق عمل کرنا۔ ــــ ہ کی طرف توجہ کرنا، کی گنجائش رکھنا، کو مدنظر رکھنا، کو پیش نظر رکھنا، کی گنجائش کو مدنظر رکھنا۔ راعَی ہ کی نگرانی کرنا، کو قابو میں رکھنا، پر کڑی نظر رکھنا، کو برقرار رکھنا، کو محفوظ رکھنا، کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، کی طرف توجہ کرنا، پر کان دھرنا، کا خیال رکھنا، کا لحاظ کرنا، (ضوابط) کے مطابق عمل کرنا، کی طرف توجہ کرنا، کی گنجائش رکھنا، کو حساب میں رکھنا، کا خیال کرنا، کو مدنظر رکھنا، کو پیش نظر رکھنا، کی گنجائش کو مدنظر رکھنا۔ ــــ ہ کا پاس کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا۔ ــــ ان: خیال رکھنا کہ مبادا وہ کہیں۔ راعَی خاطِرَہُ: کے جذبات اور خواہشات کا پاس کرنا، لحاظ کرنا، کی بات رکھ لینا۔ اَرْعَیتُہُ سَمْعِی: میں نے اس کی بات پر کان لگائے، اسے سننے کی کوشش کی۔ اَرْعِنی سَمْعَکَ: میری بات غور سے سنو۔ اَرْعَی ہ نظرَہُ: کو توجہ سے دیکھنا۔ اِرْتَعَی: مویشیوں کا چرنا، چراگاہ میں چرنا۔ اِسْتَرْعَی نظرَہُ: کی آنکھوں کو کشش کرنا۔ ــــ الانتباھَ: کی توجہ مبذول کرانا۔ ــــ ہ پر عمل کرنا۔ رَعْی نگرانی، نگہداشت، حفاظت، سرپرستی۔ ــــ ل: کی پابندی، پر عمل، پر استقامت۔ رَعْیًا لَکَ: خدا [illegible] رے ساتھ ہو۔ رَعِیَّۃ جمع رَعایا: ریوڑ، گلہ، چھوٹے کلیسائی حلقہ کی آبادی۔ رعیت، شہری، باشندہ۔ رَعَوِی جمع رَعاوِی و رِعائی: شعبانی، راعیانہ، گڈریوں سے متعلق، دیہاتی۔ کنیسۃ رعویۃ چھوٹے کلیسائی حلقہ کا گرجا، کلیسا۔ رسالۃ رِعائیۃ: لاٹ پادری کا مراسلہ۔ رَعَوِیَّۃ شہریت، قومیت۔ مَرْعًی جمع مَراعٍ چراگاہ، گھاس کا قطعہ، چرنے والی زمین۔ رِعایۃ: حفاظت، نگرانی، نگہداشت، توجہ، پاس، لحاظ، مروت، سرپرستی، اہتمام، کفالت، ضمانت، زیرحمایت علاقہ۔ تحتَ رِعایۃِ: کے زیر اہتمام، کے زیر سرپستی، کی ضمانت سے۔ مرکزُ رعایۃ الطفل بچوں کے لئے مرکز صحت۔ شرط معاملۃ الدول الاکثر رعایۃً سب سے زیادہ پسندیدہ قوم کی شق۔ مُراعاۃ پاس، لحاظ، احترام، (کی) تعمیل، پابندی، (پر) عمل۔ مُراعاۃً لِ: کے پاس ادب سے، کے لحاظ کی وجہ سے، کے لئے، کے واسطے، کی خاطر، کی پابندی میں، پر عمل کرتے ہوئے۔ مراعاۃً لِخواطِرِھم: کے لحاظ کی وجہ سے، ان کے جذبات وخواہشات کے احترام کی وجہ سے۔ مع مراعاۃِ ھذا اس کا خیال کرتے ہوئے، کے مدنظر کے پیش نظر، کی طرف توجہ کرتے ہوئے۔ راعٍ جمع رُعاۃ و رُعیان و رُعاء: گڈریا، چرواہا، راعی، نگہبان، محافظ، گلہ بان، سرپرست، مربی، پیش کار، ذمہ دار، کفیل، ضامن، غیر مقلد پادری۔ مَرْعِیّ: (پر) عمل کیا ہوا، کے حسب ہدایت یا حسب خواہش کیا ہوا۔

رغ: رَغْرَغَ: نیکی میں منہمک ہونا۔ ــــ ت الاِبِلُ: کے اونٹوں کا ہر روز جب چاہا پانی پینے آنا۔ ــــ الامرَ معاملہ کو پوشیدہ رکھنا، چھپانا۔

رغب ا۔ رَغِبَ ـ رَغْبًا و رُغْبًا و رَغْبَۃً فیہ: کو چاہنا، کی خواہش کرنا، سے محبت کرنا۔ ــــ عنہ: سے منہ پھیرنا، اعراض کرنا، روگردانی کرنا، کو چھوڑنا۔ ــــ بہ عن غیرہ: کو کسی پر فضیلت دینا، برتری دینا، ترجیح دینا۔ ــــ رَغَبًا و رَغْبَی و رُغْبَی و رُغْبَۃً و رَغَبُوتًا و رَغَبانًا و رَغْباءَ الیہ: کو عاجزی و خواری سے مانگنا، کی التجا کرنا۔ رَغَّبَ ہ: کو اس کی مرغوب شے دینا۔ ــــ ہ فی الشیء کو کی رغبت دلانا، میں کی خواہش پیدا کرنا۔ اَرْغَبَ ہُ فی الشیء کو کی رغبت دلانا، میں کی خواہش پیدا کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَرْغَبَ اللّٰہُ قدرکَ اللہ تعالیٰ تمہاری قدروشان کو بلند کرے۔ تَراغَبَ الناسُ فی الخیر: لوگوں کا بھلائی و خیر کی خواہش کرنا، ان میں رغبت رکھنا۔ لا تَرْغَبْ فیہ: کی رغبت کرنا، خواہش کرنا، کو چاہنا۔ الرَغَب مرغوب۔

المَرغُوب: راغب۔ الرَّغِيبَة جمع رَغَائب: مرغوب شئے، بڑی بخشش۔

۲۔ رَغُبَ ـُ رُغْبًا و رُغُبًا و رَغَابَةً: بسیار خور ہونا، پیٹو ہونا۔ ـــ الوادی. وادی کا بہت پانی سمانا۔ تَرَاغَبَ الوادی. وادی کا کشادہ و فراخ ہونا۔ الرُّغُب و الرَّغَاب من الارض. بارش کے پانی کو بہت جذب کرنے والی زمین۔ طریقٌ رَغِبٌ جمع رُغُب: کشادہ و فراخ راستہ۔ الرَّغِيب جمع رِغَاب: بڑے پیٹ والا آدمی وغیرہ کہا جاتا ہے: حوضٌ رَغِيب و سقاءٌ رغیب: فراخ حوض کشادہ مشک۔ فرسٌ رَغِيبُ الخَطْوَة: کشادہ قدم اور بہت زمین طے کرنے والا گھوڑا۔ رَغِيبُ البطن: بہت کھاؤ، پیٹو۔ حِمْلٌ رَغِيبٌ بھاری بوجھ۔ الرَّغِيبَة جمع رَغَائب. رغیب کی مونث، بڑے پیٹ والی عورت۔

◯ رَغِبَ ـَ رَغْبَةً و رَغَبًا في کی خواہش کرنا، کو چاہنا، کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، کی التجا کرنا، درخواست کرنا، کی حرص کرنا۔ ـــ الی/من فی: سے کو مانگنا۔ ـــ الی/من أن: کو کچھ کرنے کے لئے کہنا۔ ـ فی: کی درخواست کرنا۔ ـــ الی/من أن: سے کچھ کرنے کی درخواست کرنا۔ ـــ فی علی: کو پر ترجیح دینا، کو سے زیادہ پسند کرنا، کو سے اچھا اور بہتر جاننا۔ ـــ ب عن: کو پر ترجیح دینا، کو سے زیادہ پسند کرنا، کو سے اچھا اور بہتر جاننا۔ ـــ فی/ب علی/عن: کو سے زیادہ پسند کرنا۔ ـــ عن: کو ناپسند کرنا، سے سخت نفرت کرنا، نفرت کرنا، کراہت کرنا، متنفر ہونا، کے لئے ناپسندیدگی رکھنا۔ ـل ب: کے لئے (بھلا برا) چاہنا۔ لا يُرْغَبُ فيه: ناپسندیدہ، ناگوار، تکلیف دہ۔ مَرْغُوب فيه: لالچ، طمع یا حرص کیا ہوا، مطلوب، جس کی مانگ ہو، درخواست کیا ہوا، مرغوب، خاطر خواہ، پسندیدہ، مناسب۔ غیر مرغوب فيه: نامرغوب، ناپسندیدہ، نامناسب، غیر خاطر خواہ۔ شخص مرغوب فيه: مرغوب، مقبول، پسندیدہ شخص۔ شخص غیر مرغوب فيه: ناپسندیدہ یا غیر مقبول شخص۔ مرغوب عنه: ناپسندیدہ، ناگوار، تکلیف دہ، نامطلوب، قابل اعتراض، قابل نفرت۔ مُرَغِّبَات: دلکشیاں، کششیں، خوانندہ، منافع، برتریاں۔

رغث: ۱۔ رَغَثَ ـَ رَغْثًا الولدُ اُمَّهُ: بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ ـــ ہٗ: کو بار بار نیزہ مارنا۔ رُغِثَ: کی پستان کی رگوں میں درد ہونا۔ اَرْغَثَتِ المرأةُ: عورت کا دائی پلائی ہونا۔ ـــ تِ المرأةُ ولدها: عورت کا اپنے بچہ کو دودھ پلانا۔ صفت: رَغُوث و رَغُوثَة و مُرْغِث۔ ـ ہٗ: کو پستان کی رگوں میں نیزہ مارنا، بار بار نیزہ مارنا۔ اِرْتَغَثَ الولدُ اُمَّهُ: بچہ کا ماں کا دودھ پینا۔ الرُّغَثَاء: پستان میں دودھ کی آمد کی رگیں۔

۲۔ رَغَثَ ـَ رَغْثًا القومُ فلانًا: لوگوں کا کسی سے مانگ مانگ کر اس کا سارا مال ختم کر دینا۔ رُغِثَ: کثرت سوال کی وجہ سے کسی کا مال ختم ہو جانا۔

۳۔ المُرْغَث: انگلی میں انگشتری پہننے کی جگہ۔

◯ رَغَثَ ـَ رَغْثًا ها: جانور کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ رَغُوث: شیر خوار جوان مادہ جانور یا جس کا دودھ ابھی چھڑایا نہ گیا ہو۔

رغد: ۱۔ رَغِدَ ـَ رَغَدًا و رَغُدَ ـُ رَغَادَةً عيشةُ: کی زندگی کا خوشحال و بامزہ ہونا۔ رَغْدٌ و رَغَدٌ و رَغِيدٌ: خوش حال و بامزہ (زندگی)۔ اَرْغَدَ القومُ: خوشحال اور آسودہ زندگی گزارنا۔ ـــ اللّٰهُ عيشةُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی زندگی کو آسودہ حال بنانا۔ ـ القومُ مواشيهم: لوگوں کا اپنے مویشیوں کو آزادی سے چرنے دینا۔ اِسْتَرْغَدَ العيشَ: زندگی کو آسودہ پانا۔ قومٌ و نساءٌ رَغَدٌ: فراخ زندگی گزارنے والے مرد و عورت۔ یہ راغد کی جمع ہے جیسے خدم خادم کی جمع ہے۔ المَرْغَدَة: باغ۔

۲۔ اِرْغَادَّ: اپنے رائے میں متردد ہونا۔ ـ اللبنُ: دودھ کا کسی قدر گاڑھا ہونا اور پورا نہ جمنا۔ الرَّغِيدَة: ایک قسم کا کھانا جو دودھ اور آٹے سے تیار کیا جاتا ہے۔

◯ رَغُدَ ـُ رَغَادَةً و رَغِدَ ـَ رَغَدًا: زندگی کا خوشگوار ہونا، آرام دہ ہونا، تفکرات سے آزاد ہونا۔ رَغْد: آرام دہ، باآرام، تفکرات سے آزاد، خوشگوار سہانی (زندگی)۔ عيش رَغْد: متمول اور فراوان زندگی۔ رَغِيد: آرام دہ، باآرام، تفکرات سے آزاد، خوشگوار سہانی (زندگی)۔ عيش رَغِيد: فراوانی اور تمول کی زندگی۔ رَغَد: آرام، فراوانی، مرفہ الحالی، تونگری (زندگی کی)۔ رَغَادَة: آرام، فراوانی، مرفہ الحالی، تونگری (زندگی کی)۔

◯ رَغْـرَغ: فراخی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ رَغْرَغَ: بمعنی غَرْغَرَ۔ دیکھو غرغر۔

رغس: رَغَسَ ـَ رَغْسًا و اَرْغَسَ اللّٰهُ مالاً و ولداً: اللہ تعالیٰ کا کسی کو مال اور اولاد بہت دینا۔ اِسْتَرْغَسَ ہٗ: کو نرم سمجھنا۔ الرَّغْس جمع اَرْغَاس: نعمت، برکت، نمو۔ المُرْغِس من العيش: فراخی کی زندگی۔

رغش: رَغَشَ ـَ رَغْشًا عليه: پر غور و شغب کرنا۔

◯ اُرْغَاطَة جمع اُرْغَاطَات و اَرَاغِيط: بوجھ اٹھانے کی کل، جہاز میں چیزیں اٹھانے کی کل۔

رغف: ۱۔ رَغَفَ ـَ رَغْفًا العجينَ: گندھے ہوئے آٹا کا پیڑہ بنانا۔ الرَّغِيف جمع اَرْغِفَة و رُغُف و رُغْف و رُغْفَان و تَرَاغِيف: گندھے ہوئے آٹا کا پیڑہ، روٹی، چپاتی۔

۲۔ رَغَفَ ـَ رَغْفًا البعيرَ: اونٹ کو آٹے وغیرہ کا لقمہ دینا۔

۳۔ اَرْغَفَ: تیز چلنا۔ ـ اليه: کو تیز نظر سے دیکھنا۔ وجهٌ مُرَغَّف: موٹا تازہ چہرہ۔

◯ رَغِيف جمع اَرْغِفَة و رُغْفَان و رُغُف: روٹی، چپاتی، میٹھا کلچا، بند، شیرمال، ایک قسم کی چھوٹی ڈبل روٹی۔

رغل: ۱۔ رَغَلَ ـُ رَغْلاً الولدُ اُمَّهُ: بچہ کا ماں کا دودھ پینا۔ اَرْغَلَتِ الامُّ ولدها: ماں کا اپنے بچہ کو دودھ پلانا۔ ـــ الجديُ اُمَّهُ: بکری کے بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ الرَّغُول: اپنی ماں کا دودھ پینے والا بکری کا بچہ۔ کہتے ہیں: هو رَمٌّ رَغُولٌ وہ ہر چیز کو غنیمت سمجھنے والا اور اسے کھا لینے والا ہے۔

۲۔ اَرْغَلَ الرجلُ غلطی کرنا، بہکنا، بھٹکنا، گم راہ ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو بے جگہ رکھنا، اس کی جگہ پر نہ رکھنا۔

۳۔ اَرْغَلَ اليه: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔

۴۔ اَرْغَلَ الزرعُ (ز): کھیتی کے خوشوں میں دانہ پڑنا۔

۵۔ اَرْغَلَ الماءُ: پانی بہت گرانا۔

۶۔ اَرْغَلَ المكانُ: کسی جگہ کا رغل گھاس اُگانا۔ الرُّغْل جمع اَرْغَال (ن): ایک تلخ گھاس۔

۷۔ الاَرْغَلُ من العيش: آسودہ زندگی۔

رغم: رَغَمَ ـُ رَغْمًا ہٗ: کو مغلوب و مقہور کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو ناپسند کرنا۔ ـــ رَغْمًا و رَغَمًا اَنفُهُ للّٰه: اللہ تعالیٰ کے لئے ذلیل ہونا، فروتنی کرنا۔ صفت: رَاغِمُ الانف جمع رُغْمُ الاُنُوف: رَغِمَ ـَ رَغْمًا و رَغَمًا اَنفُهُ لِلّٰهِ: اللہ تعالیٰ کے لئے ذلیل ہونا، فروتنی کرنا۔ ـــ ہٗ: کو ناپسند کرنا۔ رَغَّمَ ہٗ: کو ذلیل کرنا اور اس کو رُغْمًا رُغْمًا کہنا یعنی اپنے لئے ذلت مانگ۔ ـ اَنفَهُ: اپنی ناک کو خاک آلود کرنا۔ کہا جاتا ہے: رَغَّمَ اللّٰهُ انفه: اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے۔ ـــ فلانٌ انفَهُ: فروتنی کرنا۔ رَاغَمَ ہٗ: باہم غضبناک ہونا، ایک دوسرے کو چھوڑنا اور آپس میں دشمنی کرنا، سے غصہ سے علیحدگی اختیار کرنا۔ اَرْغَمَ ہٗ: کو ذلیل کرنا، ناراض کرنا، ناپسندیدہ کام پر اُکسانا۔ ـــ ہُ الذلَّ: عاجزی کا کسی کو گرد آلود کرنا۔ ـ

اللّٰہُ انفَہٗ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو ذلیل کرنا۔ ـــ اھلَہٗ: اپنے اہل کو ناخوشی سے چھوڑ دینا۔ ـــ اللقمةَ من فيه: اپنے منہ کے لقمہ کو مٹی میں ڈالنا۔ ـــ ت الغنمُ او الظباء: بکریوں یا ہرنیوں کا رینٹ بہنا۔ تَرَغَّمَ علیه: پر غضبناک ہونا۔ ـــ تُ الرجلَ: میں نے اس کے خلاف طبع کام کیا۔ الرُّغم و الرَّغم و الرِّغم: ناپسندیدگی (کہا جاتا ہے: انی علی رغمه: وہ اپنی خلاف مرضی آیا) جبر، ذلت، مٹی۔ راغِمُ الانفِ جمع رُغُمُ الانوف: ذلیل۔ الرُّغام جمع ارْغِمَة: رینٹ، ناک کی ریزش۔ الرَّغام: مٹی یا مٹی ملی ریت، ذلت، مرضی کے خلاف فرمانبرداری۔ الرُّغامة: حاجت، ضرورت۔ کہا جاتا ہے: لی عند فلان رُغامة: فلاں کے پاس میری حاجت ہے۔ الرَّغْماء من الشاء: بکری جس کے ناک کے کنارے پر سفیدی یا ایسا رنگ ہو جو اس کے تمام جسم سے مختلف ہو۔ المَرْغَم و المَرْغِم جمع مَراغِم و الرغامَی: ناک۔ المراغَم (مفعول): کھیلنے کا میدان، بھاگنے کی جگہ، جانے کی جگہ۔ (کہا جاتا ہے: إذلَّنی عن دارِ الهوان مُراغَمٌ): میرے لئے ذلت کے مقام سے بھاگنے کی جگہ ہے، قلعہ۔ المُرْغام مؤنث مِرْغامة: غضبناک کرنے والا، غصہ میں لانے والا۔ المَرْغَمة: ناپسندیدگی۔ کہا جاتا ہے: فعلت ذلك علی مرغمته: میں نے وہ کام اس کی ناپسندیدگی کے باوجود کیا۔

○ ارْغَمَہٗ علی: کو کوئی کام کرنے پر مجبور کرنا، سے زبردستی کوئی کام کروانا، پر کوئی کام کرنے کے لئے دباؤ ڈالنا۔ رَغْمَ: کے باوجود، کے باوصف، کے ہوتے ہوئے، کے علی الرغم۔ رَغْمَ اَنْ: اگرچہ، ہرچند، باوجودیکہ۔ رَغْمًا عن: کے باوجود، کے باوصف، کے ہوتے ہوئے۔ رَغْمًا عن انفِهٖ اور علی الرغم من انفه: اس کی مرضی کے خلاف، کی عدول حکمی کرتے ہوئے، کو نیچا دکھانے، نقصان پہنچانے یا کی مخالفت کرنے کے لئے۔ بالرغم من، بالرغم عن اور علی الرغم من: کے باوجود، کے باوصف، کے ہوتے ہوئے، کے علی الرغم۔ بالرغم من کلِّ هذا: اس سب کے باوجود۔ بالرغم منه و علی الرغم منه: کی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی کے خلاف، چاروناچار، بے دلی سے، بادلِ ناخواستہ، نارضامندی سے۔ علی رغم مِنّی: میرے چاہنے کے بغیر۔ بالرغم من انَّ: اس حقیقت کے باوجود، اگرچہ، باوجودیکہ۔ لا ...... الا رَغْمًا: صرف چاروناچار، بے دلی سے، بادلِ ناخواستہ، صرف بڑی کوشش سے۔ رَغَام: مٹی اور ریت۔ رُغام: بلغم، لیس دار مادہ۔ رُغامَی: نرخرا، سانس کی نالی، ہوا کی نالی۔ مَرْغَمَة جمع مَراغِم: مجبوری، دباؤ، جبر، قوت، طاقت، نفرت، بیزاری، نارضامندی، ہچکچاہٹ، بیدلی، غیر آمادگی، ناپسندیدگی، کراہت۔ ارغام علی: پر مجبور کرنا۔ راغِم: نارضامند، غیر آمادہ، بیدل۔ وَانْفُهٗ راغِمٌ: بے دلی سے، بادل ناخواستہ، چاروناچار، نارضامندی سے۔

رغن: رَغَنَ ـَ رَغْنًا فيه: کی طمع کرنا۔ ارْغَنَهٗ: کو طمع لالچ دینا۔

۲- رَغَنَ ـَ رَغْنًا اليه: پر/کی طرف کان لگانا۔ ارْغَنَ اليه: پر/کی طرف کان لگانا۔ ـــ لفلان: کی اطاعت کرنا۔ ـــ الامرَ: کام کو آسان و سہل کرنا۔

۳- الأُرْغُن و الأُرْغُنون: آرگن، ایک قسم کا باجہ۔

رغا: رَغَا ـُ رُغاءً البعيرُ او النعامُ او الضبعُ: اونٹ کا بلبلانا، شتر مرغ کا اور بجو کا چیخنا چلانا۔ الصبیُّ: بچہ کا زور سے رونا۔ ـــ الرعدُ: بادل کا زور سے کڑکنا، گرجنا۔ رَغْوَاهٗ: کو ذلیل کرنا، مغلوب کرنا۔ رَغَّى تَرْغِيَةً ہٗ: کو ذلیل کرنا، مغلوب کرنا۔ ـــ فلانًا: کو غضبناک کرنا۔ ارْغَى اِرْغاءً ہٗ: کو ذلیل کرنا، مغلوب کرنا۔ کہا جاتا ہے: ارغی الرجلُ و ازبدَ: آدمی غصہ سے چیخا اور دھمکی دی۔ اتيته فما اثغی ولا ارْغَی: میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھ کو نہ بکری دی نہ اونٹنی۔ الراغية: اونٹنی۔ کہتے ہیں: ماله ثاغيةٌ ولا راغيةٌ: اس کے پاس بکری ہے نہ اونٹنی۔

۲- رَغَا ـُ رَغْوًا و رَغَّى ترغيةً و ارْغَى اِرْغاءً اللبنُ و نحوه: دودھ وغیرہ میں جھاگ اٹھنا۔ اِرْتَغَى اللبنَ: دودھ سے جھاگ اتارنا۔ ـــ الرِّغْوَة: جھاگ پینا۔ الرُّغْوَة و الرَّغْوة و الرِّغْوة جمع رُغًى و رِغًى و الرُّغاية و الرِّغاية و الرِّغاوة و الرُّغاوَی و الرَّغاوَی من اللبن: دودھ کا جھاگ۔ المِرْغاة: کف گیر۔ المُرْغِي من الكلام: مبہم کلام۔

○ رَغَا ـُ رَغْوًا: جھاگ لانا، جھاگ دینا۔ ارْغَى: جھاگ لانا، جھاگ دینا۔ ارْغَى و ازبدَ: سخت غصہ ہونا۔ رَغْوَة و رُغْوة جمع رَغاوٍ: جھاگ، پھین، صابن کا جھاگ یا پھین، دھات کا میل۔ رَغْوِیّ: کف آلود، جھاگ کا (سا)، محض لفاظی پر مشتمل۔ رَغّاء: باتونی مقرر، بے معنی باتوں میں وقت ضائع کرنے والا، بکواسی، باتونی، بھڑ بھڑیا، بکو۔ رُغاوة: جھاگ، پھین۔ ماله ثاغيةٌ و لا راغيةٌ: اس کے پاس مطلقاً کچھ نہیں، وہ تمام وسائل سے محروم ہے۔ لفظی مفہوم: اس کے پاس نہ تو میں میں کرنے والی بھیڑ ہے نہ بلبلانے والا اونٹ۔

رف: رَفَّ ـُ رَفًّا: بہت کھالینا۔ ـــ اللبنَ: دودھ ہر روز پینا۔ ـــ شفتيه: اپنے ہونٹ چوسنا۔ ـــ الدابةَ: جانور کو بھوسہ کھلانا۔ الرَّف و الرِّفَّة: بھوسہ، بھوسے کا چورا۔ الرِّف: ہر روز کا پینا۔ کہا جاتا ہے: اخذته الحُمّی رِفًّا: اس کو ہر روز بخار آیا۔ الرُّفاف: بھوسے کا چورا۔

۲- رَفَّ ـِ رِفَّةً ہٗ: کی خدمت کرنا، سے احسان، بھلائی کرنا، کی ہر قسم کی خدمت کرنے میں کوشش کرنا۔ ـــ الناسَ به: کو لوگوں کا گھیر لینا (کہا جاتا ہے: ذهب من كان يحفُّهٗ و يرفُّهٗ: جو اسے سینے سے لگاتا تھا اور اس سے ہمدردی کرتا تھا چلا گیا۔) ـــ به: کی عزت و اکرام کرنا۔ ـــ الی كذا: سے خوش ہونا۔ ارْتَفَّ ارْتِفافًا ت الدجاجةُ علی بيضها: مرغی کا اپنے انڈوں پر پر پھیلانا۔

۳- رَفَّ ـِ رَفًّا ت العينُ: آنکھ کا پھڑکنا۔ ـــ البرقُ: بجلی کا چمکنا، کوندنا۔ ـــ رَفًّا و رفيفًا لونُهٗ: کا رنگ چمکنا، تمتمانا۔ ـــ و ارْتَفَّ النباتُ: سبزہ کا لہلہانا۔ الرَّفيف: فراخ سالی۔ فتی رفيفُ الاخلاق: اچھے اخلاق والا نوجوان۔ الرَّفّاف: اسم مبالغہ، بہت چمکدار۔ کہا جاتا ہے: ثغرٌ رفّافٌ: بہت چمکدار دانت۔

۴- رَفَّ ـُ رَفًّا البيتَ: گھر کے لئے الگنی بنانا۔ الرَّف (مص) جمع رُفوف و رِفاف: الگنی یا مچان۔ الرَّفيف: چھت۔

۵- رَفَّ ـُ رَفًّا ثوبَهٗ: دوسرا کپڑا لگا کر اس کو نیچے سے کشادہ کرنا۔

۶- الرَّف جمع رُفوف و رِفاف: باریک، عمدہ ریت، مویشیوں کا ریوڑ، پرندوں کا جھنڈ، ٹولہ، نرم کپڑا، بکریوں کا باڑہ۔ الرِّف: اونٹوں کا گلہ۔

۷- رَفْرَفَ الشیءُ: چیز کا آواز نکالنا۔ ـــ الطائرُ: پرندہ کا پر پھڑ پھڑانا۔ الرَّفْراف (ح): ایک قسم کا پرندہ اسے خاطف ظلہ بھی کہتے ہیں۔

۸- الرَّفْرَف: جمع رَفارِف: لکڑی وغیرہ کی الگنی یا مچان جس پر گھر کی چیزیں رکھتے ہیں، درخت یا پودے کی لٹکنے والی شاخ۔ ہر زائد موڑی ہوئی شے، فرش، بچھونا، تکیہ، ریشمی باریک کپڑا، کپڑے کا ٹکڑا جو پردوں اور

خیموں کے زیریں حصہ میں سیا جاتا ہے۔ (کہا جاتا ہے: ضربت الریحُ رفرف الفسطاط: ہوا خیمہ کے نچلے حصہ کو لگی) خیمہ کا دامن، زرہ کے کنارے، زرہ کا لٹکنے والا حصہ۔ رفرف الدِرْع: جالی دار بنی ہوئی زرہ۔

○ رَفَّ -رَفًّا و رَفِیفًا: چمکنا، روشن ہونا، جگمگانا، تاباں ہونا، درخشاں ہونا، بھڑکنا، رہ رہ کر چمکنا، جھلملانا، ٹمٹمانا، جھمکنا۔ ـ رَفًّا: کانپنا، تھرانا، پھڑکنا، (پرندہ کا) پر جھاڑنا، پھڑ پھڑانا، پروں کو پھڑ پھڑانا، تھوڑے فاصلہ تک اڑنا، لہرانا، لہلہانا، کادریا بہنا، چمکنا، کوندنا، ایک لحہ کے لئے شعلہ کا لرزنا، یا لپکنا، اچانک دکھائی دینا۔ ـ لہ: کو خوش کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہونا، کی تندہی سے خدمت کرنا۔ رَفَّ علی ذاکرتہ: کو اچانک سوجھنا، ذہن میں یکا یک آنا، بجلی کی طرح (خیال) کوندنا۔ رَفّ: (پرندوں کی) پرواز، جھولی۔ رَفّ جمع رُفُوف و رِفاف: دیوار کا طاقچہ، تختہ، ریک، خانہ گھر، کھڑی چٹان کے پہلو سے ابھرا ہوا پتھر۔ وضعہ علی الرف: کو تختہ پر رکھنا، ایک طرف رکھنا، کھٹائی میں ڈالنا۔ رَفّاف: چمکدار، روشن، تاباں، شعلہ فشاں، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، منور۔

رفا: ا رَفَأَ -رَفْأً السفینةَ: کشتی یا جہاز کو کنارے کے قریب کرنا۔ ـ الثوبَ: کی پھٹن کو سینا، کپڑا رفو کرنا۔ ـ بینھم: کے مابین صلح کرانا۔ اَرْفَأَ الیہ: کے قریب ہونا، کے پاس پناہ لینا۔ ـ ت السفینةُ: کشتی یا جہاز کا کنارے یا ساحل سے قریب ہونا۔ ـ الشیءَ الیہ: چیز کو اپنے قریب کرنا۔ ـ الرجلُ: کنگھی کرنا۔ الرَفَّاء: رفوگر۔ المَرْفَأ و المُرْفَأ جمع مَرَافِئ من البحر: بندرگاہ۔

۲-رَفَأَ -رَفْأً ہٗ: کو خوف سے تسکین دینا، سے دوستی کا اظہار کرنا۔ رَفَّأَ تَرْفِئَةً و تَرْفِیئًا ہٗ: کو مبارکباد دینا اور بالرفاء و البنین کہنا۔ ان الفاظ سے شادی شدہ کو دعا دی جاتی ہے کہ تم دونوں کے درمیان اتحاد و اتفاق رہے اور تم کو اولاد نصیب ہو۔ رَافَأَ و اَرْفَأَ ہٗ: سے مدارات کے ساتھ پیش آنا، محبت کا اظہار کرنا۔ تَرَافَأَ القومُ علی الشیءِ: پر آپس میں اتفاق کرنا، باہم مدد کرنا۔ الرِفَاء: اتفاق، اتحاد۔

○ رَفَا -رَفْوًا ہٗ: کپڑے کی مرمت کرنا، اصلاح کرنا، کپڑے کو رفو کرنا، کپڑے کی پھٹی ہوئی جگہ سی دینا، رفو کرنا۔ ـ ہٗ: کشتی کو کھینچ یا گھسیٹ کر کنارے پر لانا۔ رَفَّاء: رفوگر۔ رِفاء: (ازدواجی) ہم آہنگی، محبت۔ بالرِفاء و البنین: (نئے شادی شدہ جوڑے کو دعا) اتفاق و اتحاد سے رہو، اور تمہارے بچے ہوں۔ مَرْفَأ جمع مَرَافِئ: فرودگاہ، مال گودی، گھاٹ، بندرگاہ۔

رفت: رَفَتَ -رَفْتًا: ٹوٹنا، کوٹا جانا۔ ـ الشیءَ: کو توڑنا، کوٹنا۔ ـ الحبلُ: رسی کا کٹ جانا۔ ـ العظمُ: ہڈی کا چورا چورا ہونا۔ تَرَفَّتَ و اِرْفَتَّ: ٹوٹنا، کوٹا جانا۔ ـ الحبل: رسی کا کٹ جانا۔ ـ العظم: ہڈی کا چورا چورا ہونا۔ الرُفَت: ہر چیز کو توڑنے والا، بھوسہ۔ الرُفَات: چورہ، ریزہ، ہر ٹوٹی اور بوسیدہ چیز۔

○ رَفَتَ -رَفْتًا ہٗ: کو توڑنا، توڑ پھوڑ ڈالنا، پاش پاش کرنا، تہس نہس کرنا، پیسنا، پیس ڈالنا، کچل ڈالنا، مسترد کرنا، کا انکار کرنا۔ ـ ہٗ: کو ملازمت سے برخاست کرنا، علیحدہ کرنا۔ رفت: برخاستگی (ملازمت سے) برخاستگی، موقوفی، سبکدوشی۔ رُفات: فانی لاش، نعش، (کسی شخص کا) جسم۔

○ رَفْتِیَة: عبور کرنے کا محصول، کلیرنس سرٹیفکیٹ، کلیرنس کے کاغذات۔

رفث: رَفَثَ -رَفْثًا و رَفِثَ -رَفَثًا و اَرْفَثَ فی کلامہ: فحش گوئی کرنا۔ الرَفَث (مص): فحش کلام۔

○ رَفَثَ -رَفْثًا: ناشائستہ انداز سے پیش آنا، فحش رویہ اختیار کرنا۔ رَفَث: فحاشی۔

رفح: رَفَّحَ ہٗ: نئی شادی والے کو مبارکباد دینا۔

○ رَفَح: جنوبی غازہ کے ایک شہر کا نام۔

رفخ: عیشٌ رَافِخٌ: آسودہ زندگی۔ الرُفُوخ: مصائب۔

رفد: ا رَفَدَ -رَفْدًا ہٗ: کو دینا، کی مدد کرنا، عطیہ بخشنا۔ ـ الحائطَ: دیوار کو سہارا دینا۔ ـ الدابةَ و علیھا: جانور کے لئے پالان بنانا۔ رَفَّدَ ہٗ: کی تعظیم کرنا، کو سردار بنانا۔ رافَدَہٗ: کو مدد دینا۔ اَرْفَدَ ہٗ: کو دینا، عطیہ بخشنا، مدد دینا۔ ـ للدابة: جانور کے لئے پالان بنانا۔ تَرَافَدَ القومُ: باہم مدد کرنا۔ اِرْتَفَدَ المالَ: مال کمانا، حاصل کرنا۔ اِسْتَرْفَدَ ہٗ: سے مدد چاہنا، بخشش چاہنا۔ الرَفْد (مص): حصہ۔ کہا جاتا ہے: اُرِیْقَ رَفْدُہٗ: وہ مر گیا۔ الرِفْد جمع اَرْفاد و رُفُود: مدد، بخشش، عطیہ، تحفہ، سہارا۔ الرِفْدَة جمع رِفَد: لوگوں کا گروہ۔ الرافِد (فا) جمع رُفَّد: بادشاہ کی عدم موجودگی میں اس کا قائم مقام۔ الرافِدة جمع رَوَافِد: پل کے اوپر چھت کی لکڑی۔ عوام اس کو ڈصلہ کہتے ہیں۔ الرِفادة: زین، زین یا گجاوے کے نیچے کی چیز، زخم کی پٹی۔ الرَفَد و المِرْفَد و المَرْفَد جمع مَرَافِد: مدد۔

۲-الرَفْد: بڑا پیالہ۔ الرِفْد جمع اَرْفَاد و رُفُود: بڑا پیالہ۔ نَاقةٌ رَفُود جمع رُفُد: وہ اونٹنی جو ایک ہی بار دوہنے سے بڑا پیالہ دودھ سے بھر دے۔ الرَافِدان: دجلہ و فرات (عراق کے دو دریا)۔ المِرْفَد جمع مَرَافِد: بڑا پیالہ۔ المَرَافِد: بکریاں جو موسم گرما و سرما میں لگاتار دودھ دیں۔

○ رَفَدَ -رَفْدًا ہٗ: کو سہارا دینا، کی مدد کرنا۔ ـ ہٗ: کو سہارا دینا، برقرار رکھنا، کو پاس رکھنا، کو لئے لئے یا اٹھائے اٹھائے پھرنا۔ اَرْفَدَ ہٗ: کو سہارا دینا، کی حمایت کرنا، تائید کرنا، مدد کرنا۔ اِسْتَرْفَدَ ہٗ: سے سہارا دینے، تائید کرنے، یا حمایت کرنے کے لئے کہنا، سے مدد کی اپیل کرنا۔ رِفْد جمع رُفُود و اَرْفاد: تحفہ، ہدیہ، ہبہ، سہارا، تائید، حمایت، کفالت۔ رِفادَة: زخم پر بندھی ہوئی پٹی، کاٹھی، زمین کا کپڑا، گدی۔ رَافِد جمع رَوَافِد: معاون دریا۔ الرافدان: دجلہ و فرات، میسوپوٹامیا، عراق۔ رَافِدَة جمع رَوَافِد: سہارا، آسرا، پل پایہ، (ٹیڑھی چھت کا) شہتیر۔ ناتو اور شہتیروں کا بیڑا۔

رفس: ا رَفَسَ -رَفْسًا و رِفَاسًا ہٗ: کے سینہ پر مارنا۔ الرَفْسَة: سینہ پر لات کی ضرب۔ نَاقةٌ رَفُوس: وہ اونٹنی جو لات مارے۔

۲-رَفَسَ -رَفْسًا و رِفاسًا اللحمَ و نحوہ: گوشت وغیرہ کا قیمہ بنانا۔

۳-رَفَسَ -رَفْسًا و رِفاسًا البعیرَ: اونٹ کے پاؤں باندھنا۔ الرِفَاس: اونٹ کے پاؤں میں باندھنے کی رسی۔

○ رَفَسَ -رَفْسًا ہٗ: کو ٹھوکر لگانا، لات مارنا، کو ٹھکرانا، لاتوں سے مارنا۔ رَفْسَة: ٹھوکر، لات، دولتی۔ رَفَّاس: دخانی کشتی، ٹگ (motor tug)، مشین کا پنکھا، Poropeller۔

رفش: ا رَفَشَ -رَفْشًا: خوب کھانا پینا۔ ـ الشیءَ: کو کوٹنا۔

۲-رَفَشَ -رَفْشًا القمحَ: گیہوں کو بیلچہ سے اٹھا کر لیجانا۔ ـ رُفُوشًا فی الامر: میں کشادہ ہونا۔ رَفِشَ -رَفَشًا: چوڑے کانوں والا ہونا۔ صفت: اَرْفَش مونث رَفْشاء جمع رُفْش۔ رَفَّشَ لحیتَہٗ: داڑھی میں کنگھا کر کے بیلچے جیسا بنا دینا۔ الرَفْش: بیلچہ، کشتی کا چپو۔ الرَفَّاش: بیلچہ سے غلہ کا ڈھیر لگانے والا۔ المِرْفَشَة: بیلچہ۔

○ رَفْش: بیلچہ، کرچھا۔

رفص: تَرَافَصُوا المَاءَ: گھاٹ پر باری باری سے اترنا، ہر آنے والے کو رفیص کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: هُوَ رَفِيصُكَ: وہ پینے میں تیرا ساتھی ہے، ہم پیالہ ہے۔ اِرْتَفَصَ السِّعْرُ: بھاؤ چڑھنا، گرانی ہونا۔ الرُّفْصَة: پانی پینے کی باری۔

⊂ رَفَّاص بمعنی رَفَّاس: دخانی کشتی، لانش۔ (Launch)

رفض: رَفَضَ ـُ رَفْضًا و رَفَضًا الشيءَ: کو پھینکنا، چھوڑنا۔ صفت: رَافِض جمع رَافِضُون و رَفَضَة و رُفَّاض۔ ـــ الإبلَ: اونٹوں کو چراگاہ میں متفرق چھوڑ دینا۔ ـــ الوادِيَ: وادی کا کشادہ ہونا۔ ـــ ـِ رُفُوضًا الإبلُ: اونٹوں کا چرواہے کے سامنے تتر بتر ہو کر چرنا، جدا جدا چرنا۔ اَرْفَضَ الإبلَ: اونٹوں کو چراگاہ میں متفرق چھوڑ دینا۔ ـــ الوادي: وادی کا کشادہ ہونا۔ تَرَفَّضَ: بکھرنا، متفرق ہونا، ٹوٹنا۔ ـــ الدمعُ: آنسوؤں کا بہنا، ٹپکنا۔ اِرْفَضَّ الشيءُ: متفرق ہو کر جانا۔ اسی سے ہے: اِرْفَضَّ الناسُ عنه: لوگ اسے چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ ـــ الدمعُ: آنسوؤں کا بہنا، آنسوؤں کے چھینٹے پڑنا۔ ـــ الجرحُ: زخم کا پیپ بہانا۔ کی پیپ بہنا۔ ـــ الوجعُ: درد مٹنا، جاتا رہنا۔ اِسْتَرْفَضَ الوادي: وادی کا کشادہ ہونا۔ الرَّفَض (مص) جمع رِفَاض و الرَّفَض جمع اَرْفَاض: اونٹوں یا بکریوں کا بکھرا ہوا گلہ و ریوڑ۔ کہا جاتا ہے: نَعَامٌ رَفَضٌ: چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بکھرے ہوئے شتر مرغ، ہر ٹوٹ کر بکھری ہوئی چیز، تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے: فی القربة رَفَضٌ من مَاءٍ: مشک میں تھوڑا سا پانی ہے۔ رَجُلٌ قُبَضَةٌ رُفَضَةٌ: کسی چیز کو تھامے رکھنے کے بعد چھوڑ دینے والا۔ الرافِضَة: شیعوں کا ایک فرقہ۔ اس فرقہ سے تعلق رکھنے والے کو رافضی کہتے ہیں۔ روافض کا ایک فرقہ جنہوں نے جنگ یا کسی اور مسئلہ میں اپنے قائد کو چھوڑ دیا اسی سے یہ قول ہے: لا خيرَ في الروافض: یعنی رافضیوں میں خیر مطلقاً نہیں۔ الرُّفَاض من الشيء: ٹوٹ کر بکھری ہوئی چیز۔ الرِّفَاض: متفرق راستے، راستوں کی جھریاں۔ الرُّفُوض: علیحدہ علیحدہ بکھرا ہوا گھاس۔ رُفُوضُ الناسِ: لوگوں کے گروہ۔ ـــ الارضِ: غیر مملوکہ زمین، ذاتی چراگاہ بننے کے بعد متروکہ زمین۔ الرَّفِيض: چھوڑا ہوا، پسینہ، ٹوٹا ہوا نیزہ۔ ـــ والمَرْفُوض: چھوڑا ہوا، متروک۔ المَرْفَضُ من الوادي جمع مَرَافِض: سیلاب بہنے کی جگہ۔

⊂ رَفَضَ ـُ رَفْضًا ہ: کو چھوڑنا، ترک کرنا، کو (بے کار سمجھ کر) پھینک دینا، جانے دینا، کو مسترد کرنا، کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا۔ اِرْفَضَّ: ختم ہونا، خاتمے پر پہنچنا۔ تَرَفَّضَ: کٹر ہونا، متعصب ہونا، مذہبی جوش والا ہونا۔ اِرْفَضَّ: بکھرنا، منتشر ہونا، ختم ہونا، اختتام پذیر ہونا، (تکلیف) ختم ہو جانا، دور ہو جانا، جاتا رہنا، (پسینہ) ٹپکنا۔ رَفْض: برخاستگی، استرداد، نامنظوری، انکار، عدم قبولیت۔ رَفِيض: چھوڑا ہوا، مسترد کیا ہوا، برخاست کیا ہوا۔ تَرَفُّض: تعصب، کٹرپن۔ رَافِضَة جمع رَوَافِض: ابنائے وقت، غدار، اختلاف رائے رکھنے والے، منحرفین، فوجی دستے جو اپنے قائد کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ روافض: ایک شیعہ فرقہ۔ رَافِضي جمع اَرْفَاض: مرتد، غدار، ابن الوقت، رافضی، باغی، سرکش، بے وفا، نمک حرام، کٹر، متعصب، مذہبی جوش والا۔

رفع ۱۔ رَفَعَ ـَ رَفْعًا الشيءَ: کو اٹھانا، لینا۔ ـــ الكلمةَ: کلمہ پر رفع کی علامت لگانا۔ ـــ القومُ: ملک میں بڑھتے چلے جانا۔ ـــ الحديثَ: حدیث کی سند پہلے قائل تک پہنچانا۔ ـــ رَفْعًا و رِفَاعًا و رَفَاعَةً القومُ الزرعَ: لوگوں کا فصل کو کٹائی کے بعد کھلیان میں لیجانا۔ کہا جاتا ہے: فلان لا يرفع العصا عن عاتقه: فلاں شخص بہت سفر کرتا ہے۔ هذا امرٌ يرفع الرأسَ: یہ کام عزت و احترام عطا کرنے والا ہے۔ رَفُعَ ـُ رِفْعَةً و رَفَاعَةً: قدر میں بلند ہونا، بلند درجہ والا ہونا۔ صفت: رَفِيع۔ ـــ رَفَاعَةً: بلند آواز ہونا۔ رَفَّعَ ہ: کو بلند کرنا۔ ـــ القومَ: قوم کو لڑائی سے دور کرنا۔ تَرَفَّعَ: اپنی برتری جتانا۔ کہا جاتا ہے: ترفعت بي هِمَّتي عن كذا: میری بلند نظری اس بات سے بالاتر ہے۔ ـــ الشيءَ او الرجلَ: چیز کو یا آدمی کو بلند کرنا۔ تَرَافَعَا: ایک دوسرے کو بلند کرنا، اٹھانا۔ اِرْتَفَعَ: بلند ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو بلند کرنا، اٹھانا۔ ـــ السعرُ: بھاؤ کا چڑھنا، گرانی ہونا۔ ـــ النهارُ: دن کا چڑھنا، لمبا ہونا۔ ـــ من بينهم الخصام: ان کے درمیان جھگڑا رفع دفع ہوا۔ اِسْتَرْفَعَ الشيءَ: کو اونچا کرنے کی درخواست کرنا۔ ـــ الخوانُ: دسترخوان کا کھانے سے خالی ہو کر اٹھائے جانے کے قریب ہونا۔ الرَّفِيع: رفعت والا۔ رجلٌ رفيعُ الصوت: شریف۔ الرِّفْعَة (مص): قدر و منزلت کی بلندی۔ الرافِعَة او المُرْحَل (ف): کرین (crane)، بوجھل چیزوں کو اٹھانے کا آلہ۔ الرَّفَاع و الرِّفَاع: کھیتی میں دانہ کا موٹا ہونا، کٹی ہوئی فصل کو کھلیان میں لے جانا۔ الرُّفَاعَة و الرِّفَاعَة و الرَّفَاعَة من الصوت: آواز کی بلندی اور کرختگی۔ الاِرْتِفَاع: بلندی مثلث، ہرم اور مخروط میں سر سے نکل کر مثلث کے قاعدہ تک ختم ہونے والا عمود، دو قاعدوں کے درمیان کا عمود۔ ارتفاعُ كوكبٍ ما (فلک): کسی ستارے کی بلندی: افق اور زمین اور ستارے کے درمیان مستقیم واقع ہونے والا زاویہ۔ المِرْفَع: چیز جس سے اٹھایا جائے۔ المِرْفَاع (ا ع): آتشی اسلحہ میں نشانہ لگانے کی ایک کل۔ المَرْفُوع (مفعول) من الكلام: بلند آواز گفتگو۔ الحديث المرفوع عند المحدثين: محدثین کی اصطلاح میں: وہ حدیث جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر پہنچتی ہو۔

۲۔ رَفَعَ ـَ رَفْعًا فلانا على صاحبه في المجلس: کسی کو مجلس میں آگے بڑھانا۔ ـــ الجملُ في السير: اونٹ کا تیز چلنا۔ ـــ الجملَ: اونٹ کو تیز چلانا۔ ـــ رَفْعًا و رُفْعَانًا زيدًا اِلى الحاكم: (زید) کو فیصلہ کے لئے حاکم کے پاس لے جانا۔ ـــ ہ اِلى السلطان: کو بادشاہ کے پاس لے جانا، قریب کرنا۔ رُفِعَ له الشيءُ: کو دور سے دیکھنا۔ رَافَعَ ہُ اِلى الحاكم: حاکم سے کسی کی شکایت کرنا اور اسے حاکم کے سامنے فیصلہ کے لئے لے جانا۔ تَرَافَعَ الخصمان اِلى الحاكم: دو خصموں (مخالف فریقوں) کا حاکم کے پاس اپنا مقدمہ لیجانا۔ الرافِع جمع رَفَعَة: خفیہ پولیس کا آدمی۔ برقٌ رافعٌ: چمکنے والی بجلی۔ الرَّفِيعَة: حاکم کے روبرو پیش کیا ہوا معاملہ۔ المَرْفَع و المَرَافِع عند المسيحين: روزوں سے پہلے کے جانے بوجھے دن۔ المَرْفُوع (مفعول): ایک قسم کی تیز دوڑ۔

۳۔ رَفَعَ ـَ رَفْعًا الشيءَ في خزانته: کوئی چیز چھپانا۔ رَافَعَ ہُ: کسی سے تعلقات قطع کرنا۔ ـــ بهم: پر رحم کرنا۔

۴۔ رَفُعَ ـُ رَفَاعَةً الثوبُ: کپڑے کا باریک ہونا۔ صفت: رَفِيع۔ الرَّفِيع (في استعمال العامة): دقیق۔ کہا جاتا ہے: خيطٌ رفيعٌ: باریک دھاگا۔ نسيجٌ رفيعٌ: باریک کپڑا۔

⊂ رَفَعَ ـَ رَفْعًا ہ: کو اٹھانا، اوپر اٹھانا، اونچا کرنا (جیسے سر اٹھانا)، (مجازاً) بھاؤ چڑھانا، ذہنی سطح بلند کرنا۔ ـــ ہ: کو بلند یا بلند تر بنانا، بلند کرنا، اونچا کرنا، کو پاس و لحاظ میں بڑھانا، زیادہ کرنا۔ ـــ ہ اِلى: کو (عہدہ، درجہ، رتبہ حیثیت میں) ترقی دینا۔ ـــ ہ: کو اڑانا (جیسے پتنگ کو)۔ ـــ عَلَمًا و رايةً: (جھنڈا، پرچم)

اٹھانا، اونچا کرنا، بلند کرنا۔۔۔ قُبْعَتَهُ: اپنا ہیٹ اتارنا۔۔۔ ہ: کو اونچا رکھنا، باندھنا، لگانا، جوڑنا، سیدھا کھڑا کرنا، بنانا، تعمیر کرنا۔۔۔ صوتَهُ: اپنی آواز بلند کرنا۔۔۔ ہ من/عن: کو سے ہٹانا، الگ کرنا، اٹھا لے جانا۔۔۔ ہ: کو یکسر ختم کر دینا، منسوخ کرنا، نکال دینا۔۔۔ ہ: (پابندی) اٹھانا، کا خاتمہ کرنا، (غلطی) کا حل کرنا، علاج کرنا۔۔۔ عن ہ: کو سے آزاد کرنا، کو سے سبکدوش کرنا۔۔۔ ہ اِلی: کو کے آگے رکھنا، (درخواست وغیرہ) کو کی خدمت میں پیش کرنا، رپورٹ وغیرہ کو متعلقہ افسر وغیرہ کے پاس بھیجنا۔ کو کی خدمت میں پیش کرنا، کو کے نام معنون کرنا۔۔۔ ہ: (قربانی) پیش کرنا۔۔۔ تقریراً: رپورٹ کرنا۔۔۔ قضیةً: قانونی کارروائی شروع کرنا۔۔۔ ہ اِلی: حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ سے نسبت دینا۔۔۔ ہ: لفظ کو رفع دینا۔ رُفِعَ لِ: کے سامنے نمودار ہونا، ظاہر ہونا، کی آنکھوں کے سامنے ہونا۔ رُفِعَ عنہ: اُسے ہوش آ گیا۔ رَفَعَ شیئاً فوق شیء: ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے سامنے یا اوپر رکھنا۔ رَفَعَ بہ راساً: کسی چیز پر توجہ دینا۔ رَفَعَ من شانہ: کی اہمیت بڑھانا، کی بہت تعریف کرنا۔ رَفَعَ من مکانتِہ: کو اونچے درجے میں لانا۔ رَفَعَ یَدَیہِ عنہ: سے باز رہنا۔ رَفَعَ الدعوی علیہ امام: کی عدالت میں کسی کے خلاف نالش کرنا، مقدمہ دائر کرنا، شکایت کرنا۔ رَفَعَ قضیة علیہ یا رفع بہ قضیة: کے خلاف قانونی کاراجوئی کرنا، کے ساتھ عدالت میں جانا۔ رَفَعَ الاستئناف امام: عدالت سے اپیل کرنا، کی عدالت میں اپیل دائر کرنا۔ رَفَّعَ: اٹھانا، بلند کرنا، اونچا کرنا، کارنیوال (کیتھولک عیسائیوں کی ہولی) منانا۔ رَافَعَ عن: کا وکیل صفائی ہونا، (عدالت میں) کسی کی صفائی کی پیش کرنا، (عدالت میں) کسی کی وکالت کرنا۔۔۔ ہ الی: کو عدالت میں طلب کرنا۔ تَرَفَّعَ عن: سے بالا ہونا، یا خود کو بالاتر سمجھنا، پر بہت زیادہ مغرور ہونا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ تَرَفَّعَ بِراسہ: اپنا سر اٹھانا، اونچا کرنا۔ تَرَافَعَ اِلی الحاکم: ایک دوسرے کو جج کے سامنے لیجانا، اپنا مقدمہ جج کے پاس لیجانا۔۔۔ (عدالت میں) جواب دعوی داخل کرنا، وکالت کرنا۔ اِرْتَفَعَ: اٹھنا، اونچا ہونا، بلند ہونا، اوپر جانا، چڑھنا، زیادہ بلند ہو جانا، بڑھنا، زیادہ ہونا، چڑھنا، (آواز، لہجہ، دھن) کا اونچا اور واضح ہونا۔۔۔ عن: سے دور چلا جانا، بدل کر ہو جانا، خارج ہونا، غائب ہونا۔ اِرْتَفَعَ صوتُہُ: وقار

حاصل کرنا۔ رفع: اٹھانا، بلند کرنا، اونچا کرنا، بلندی، ارتفاع (قیمتوں، درجہ، حرارت کا) چڑھنا، تعمیر، منسوخی، (بندش، پابندی کا اٹھایا جانا، علاج، چارہ کار، اخراج، ہٹانا، اٹھانا، اٹھ جانا، (ٹیکس کی) معافی، (رپورٹ وغیرہ کا) پیش کرنا، (حرف کو) رفع دینا۔ رفع الاثقال: ویٹ لفٹنگ (weight lifting)، صحت کیلئے وزن اٹھانا۔ رِفْعَة: بلندی، رفعت، اونچا درجہ یا حیثیت۔ صاحب الرِفْعَة: زمانہ گذشتہ میں مصر کے وزیر اعظم کا لقب۔ رِفْعَةُ رئیس الوزراء: فضیلت مآب وزیر اعظم۔ رَفِیع: اونچا، بلند، بلند مرتبہ والا، بلند مرتبہ، بلند پایہ، ممتاز، پرشوکت، پروقار، برتر، سرفراز، بلند (آواز)، باریک عمدہ، نازک، نفیس، دقیق، شائستہ، شاندار، سبک، لطیف، باریک بین، بلند تخیل، پرصنعت، فنی، فنون لطیفہ کے متعلق۔ رفیع الشان: سرفراز (زمانہ گذشتہ میں تونس کے بے خاندان کے بے افراد کا لقب)۔ صاحبُ المَقام الرفیع: ۱۹۳۶ میں فؤاد اول کے قائم کردہ تمغہ (القلادۃ) کے حاملین کا لقب۔ الفنون الرفیعة: بمعنی الفنون الجمیلة: فنون لطیفہ۔ الرفیع و الوضیع: اونچے نیچے سب۔ مُرَافِع: مدعی، دعوی کرنے والا، نالش کرنے والا، مستغیث، دادخواہ۔ مُتَرَفِّع: مغرور، خود پسند، خود بین، متکبر، گستاخ، اپنی حیثیت پر مغرور۔ مُرْتَفِع: اٹھتا ہوا، چڑھتا ہوا، اونچا، بلند، گونجتا ہوا، بجتا ہوا۔ سِکّةُ الحدید المرتفعة: کسی شہر کی سڑکوں کے اوپر سے گذرنے والی ریلوے۔ مُرْتَفَع: بلندی، بلند جگہ، اونچائی، ارتفاع، بلند مقام، بالاخانہ، بلند سطح پہاڑی جمع مرتفعات: پہاڑیاں، اونچی جگہیں۔

رفغ: ا رَفَغَ ۔ رَفَاغَةً العیشُ: زندگی کا فراخ اور خوشگوار ہونا۔ صفت رَافِغ و رَفِیغ و اَرْفَغ۔ اَرْفَغَ لہُ المعاشَ: کی روزی میں وسعت و فراخی دینا۔ تَرَفَّغَ: آسودگی و خوشحالی سے زندگی بسر کرنا۔ الرُّفْغ جمع اَرْفَاغ و رُفُوغ: زندگی کی آسودہ حالی و خوشگواری۔ کِلْسٌ رَفْغ: نرم چونا۔ الرَفَاغَة و الرفَاغِیَة: بمعنی الرفغ۔

۲۔ الرُفْغ جمع اَرْفُغ و رِفَاغ: وادی کی سب سے خراب مٹی والی جگہ، گوشہ، طرف، بہت مٹی والی زمین۔ (کہا جاتا ہے: جاء بمالٍ کرفغ التراب: وہ بہت مال لایا)۔۔۔ جمع اَرْفَاغ و رُفُوغ: جسم میں میل جمع ہونے کی ہر جگہ، جوار کا بھوسہ۔ اَرْفَاغُ الناس: کمینے گھٹیا لوگ۔ الرافغ (ع): ہاتھوں

اور رانوں کی جڑیں۔ (اس کا واحد نہیں)۔

رفق: ا رَفَقَ ۔ رِفْقًا ہُ: کو نفع پہنچانا، کی مدد کرنا۔۔۔ رِفْقًا و مَرْفِقًا و مَرْفَقًا و مِرْفَقًا بہ و لہ و علیہ: کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا۔ رَفُقَ ۔ رِفْقًا و مَرْفِقًا و مَرْفَقًا و مِرْفَقًا بہ و لہ و علیہ: کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا۔۔۔ رَفَاقَةً الرجلُ: رفیق و ساتھی ہونا۔ رَفِقَ ۔ رِفْقًا و مَرْفِقًا و مَرْفَقًا و مِرْفَقًا بہ و لہ و علیہ: کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا۔ رَافَقَ ہُ: کا ساتھی ہونا، بننا (آپ کہتے ہیں: رافقہ فی السفر: وہ سفر میں اسکا ساتھی بنا) کے ساتھ ہونا، کی معیت میں ہونا۔ اَرْفَقَ ہُ: کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، کو نفع دینا۔ تَرَفَّقَ بہ: کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا۔ تَرَافَقَ الرجلان: ایک دوسرے کا ساتھی ہونا۔ اِرْتَفَقَ: مدد چاہنا۔۔۔ القومُ: سفر میں سنگ ساتھ ہونا۔۔۔ بہ: سے نفع اٹھانا۔ اِسْتَرْفَقَ ہُ: سے مہربانی اور نفع چاہنا۔ الرِفْق (مص): نرم برتاؤ، مہربانی کا سلوک، وہ چیز جس سے مدد لی جائے۔ الرَفَق: آسان۔ کہا جاتا ہے: ھذا امرٌ رَفَقُ البغیة: یہ کام آسانی سے حاصل ہونے والا۔ الرِفْقَة و الرُفْقَة و الرُفْقَة و الرُفَاقَة جمع رِفَاق و رِفَق و رُفَق و اَرْفَاق: ساتھیوں کا ٹولہ۔ الرَفِیق جمع رُفَقَاء: ساتھی (اس کے واحد جمع پر اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں: ھم رفیقی: وہ میرے ساتھی ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں: ھو رفیقی: وہ میرا ساتھی ہے)، مہربان۔ الرافِقة: نرمی، مہربانی، حسن سلوک۔ المَرْفَق و المِرْفَق جمع مَرَافِق: جس چیز سے نفع اٹھایا جائے۔ المَرْفِق جمع مَرَافِق: جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی سے ہے: مَرَافِقُ الدار: گھر کے منافع یعنی لوازمات خانہ جیسے کنواں، باورچی خانہ، پاخانہ۔ مَرَافِقُ البلاد: اہل ملک کی نفع اندوزی کی چیزیں۔

۲۔ رَفَقَ ۔ رَفْقًا ہُ: کی کہنی پر مارنا۔۔۔ الناقةَ: اونٹنی کا بازو باندھنا۔۔۔ العملَ: کام کو مضبوط و مستحکم کرنا۔ رَفِقَ ۔ رَفَقًا البعیرُ: اونٹ کا پہلو سے مڑی ہوئی کہنی والا ہونا۔ صفت اَرْفَق۔ تَرَفَّقَ علیہ: کا سہارا لینا۔ تَمَرْفَقَ: کہنی پکڑنا۔ اِرْتَفَقَ: کہنی یا تکیہ پر ٹیک لگانا۔ الرِفَاق جمع رُفُق: اونٹنی کے بازو باندھنے کی رسی۔ المَرْفَق جمع مَرَافِق (ع ا): کہنی۔ المِرْفَق جمع مَرَافِق: کہنی، تکیہ لگانے کی جگہ۔ المِرْفَقَة: چھوٹا تکیہ۔ المُرْتَفَق: تکیہ لگانے کی جگہ۔

۳۔ اِرْتَفَقَ الاناءُ: برتن کا بھرنا۔ المُرْفِق: وہ شخص جس

کے پاس ضرورت سے زائد ہر چیز ہو (عوام کی زبان میں)۔ المُرتَفِق: بھرا ہوا۔

۴۔ الـرَفَق: دودھ کی نالی میں خرابی۔ نـاقۃٌ رَفِقَۃٌ و رَفْـقَـاء: دودھ کی نالی میں خرابی والی اونٹنی یا جس کے تھن کے سرے میں خرابی پیدا ہو گئی ہو جس کی وجہ سے تھن سے خون نکلتا ہو۔ المُرتَفِق: ثابت، دائم۔

○ رَفَقَ ـُ رِفْقًا و رَفِقَ ـَ رَفَقًا ب/علی/ل: پر مہربانی ہونا، سے دوستانہ ہونا، پر لطف ہونا۔ ـــ ب: سے نرمی کے ساتھ پیش آنا، کے ساتھ شائستہ، مہذب، خوش اخلاق ہونا۔ رَافَـقَ ہ: کا ساتھی ہونا، رفیق ہونا، کے ساتھ ہونا، کی معیت میں ہونا، سے گہرے دوستانہ تعلقات ہونا، سے مل جل کر کام کرنا، کا دوست ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کے ساتھ جانا، کا ہمرکاب یا ہمسفر ہونا، کے ہمراہ ہونا، کی معیت میں جانا۔ ـــ ہ/ ہ: حفاظت کے لئے کے ہمراہ جانا، کا ہمراہ ہونا۔ اَرْفَـقَ ہ: کے لئے کار آمد ہونا، مفید ہونا، کی خدمت کرنا، مدد کرنا، کو فائدہ مدد یا کام دینا۔ ـــ ہ ب: کے ساتھ کے ہمراہ جانا، کے ساتھ کچھ نتھی کرنا، شامل کرنا، ٹانکنا، ملحق کرنا، لف کرنا، ملفوف کرنا۔ تـرَفَّقَ ب/مع: کے ساتھ شریفانہ اور دوستانہ رویہ اور مہربانی کا اظہار کرنا، سے پر لطف ہونا۔ ـــ فی: کوئی کام نرمی سے کرنا، میں نرمی سے آگے بڑھنا۔ تـرَفَّقَ فی سیرہ: آہستہ چلنا، چہل قدمی کرنا، ٹہلنا، سیر کرنا، ٹہلتے پھرنا، مٹرگشت کرنا۔ تـرَافَق: اکٹھے سفر کرنا۔ اِرْتَفَقَ ب: سے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا یا حاصل کرنا، کو برتنا، استعمال کرنا، استعمال میں لانا، کا مصرف ڈھونڈنا۔ ـــ ہ: پر اپنی کہنیاں ٹکانا، پر اپنے بازو سے ٹیک لگانا۔ رِفْق: مہربانی، دوستی، دوستانہ سلوک، نرمی، شائستگی، شرافت۔ جمعیۃ الرِفق بالحیوان: جانوروں پر بے رحمی روکنے کی انجمن۔ رِفْقَۃ و رُفْقَۃ جمع رِفاق و رِفَق و رُفَق و اَرْفاق: گروہ، ٹولہ، دستہ، لوگوں کی انجمن، جمعیت، جماعت، ساتھ، معیت۔ بـرفقۃ: کی معیت میں۔ رَفِـیق جمع رُفَقاء و رِفَاق: ساتھی، مصاحب، حفاظتی دستہ، دوست یار، بھیا، کامریڈ، ساجھی، شریک کار، ہم صحبت، کاروبار کا ساتھی، رفیق۔ ـــ ب: پر مہربان۔ ـــ: شریف، نرم، نازک، ملائم۔ رفیق المدرسۃ: ہم مدرسہ، ہم سکول، ہم جماعت، ہم کلاس۔ رَفِیْقَۃ جمع رفیقات: خاتون ساتھی، گرل فرینڈ، محبوبہ، معشوقہ، داشتہ۔ مِـرْفَق: کہنی۔ مَرْفِق: کہنی جمع مَرافِق: ذاتی سہولت و آرام کے باعث کی کوئی چیز، کار آمد شے جیسے غسل خانہ پاخانہ وغیرہ، حصول تہذیب و تمدن، تہذیب و تمدن سکھانے کا ادارہ۔ جمع مَـرَافِـق: تہذیب و تمدن کی تحصیلات، کار آمد اشیاء، رفاہ عامہ کے کام، شہری یا عوامی خدمات، تنصیبات، سہولیات۔ الـقیـام عـلـی مـرافـقھـم: لوگوں کی بہبود کے لئے تشویش۔ مَرافِقُ الحیاۃ: کار آمد اشیاء، ذاتی سہولت و آرام کے باعث کی چیز۔ المرافق العامۃ: رفاہ عامہ کے کام، شہری (یا عوامی) خدمات۔ مَرافِقُ التکریر: تیل صاف کرنے کی سہولتیں۔ مُـرَافَقۃ: ہمرکابی، رفاقت، مصاحبت، ساتھ، معیت، صحبت، ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اِرْتفاق: استعمال، استفادہ، مفید ہونا، افادیت، فائدہ مندی، سود مندی، حق آسائش، کسی دوسرے کی زمین پر راستہ کا حق، کسی دوسری عمارت کے ملحقہ مکانات سے راستہ بنانے کا حق۔ مُـرَافِـق جمع مـرَافِقون: ساتھی، حاشیہ بردار، مصاحب، حفاظت کے لئے ساتھ جانے والا، سر ملانے والا، سازندہ، نائب، مددگار۔ مُرْفَق بہ: منسلکہ، لفافہ میں بند بھیجا جانے والا خط وغیرہ۔ جمع مُرْفَقات: ملفوف کاغذات وغیرہ۔ مُـرْتَـفَق: وہ چیز جس پر ٹیک لگائی جائے، سہارا، پاخانہ، بیت الخلاء۔

رفل: ا۔ رَفَلَ ـُ رَفْلاً و رُفُولاً و رَفَلاناً: دامن گھسیٹتے ہوئے تکبر سے چلنا، ہاتھ ہلاتے ہوئے چلنا۔ صفت: رفل مؤنث رفِلۃ: ـ رَفِلَ و رَفِلَ ـَ رَفَلاً: بدلباس اور کام میں بے سلیقہ ہونا۔ صفت: اَرْفَـل و رَفِـل مـؤنـث رَفْلاء۔ رَفَّلَ الإزارَ: آزار لٹکانا اور ناز سے چلنا۔ ـــ ہٗ: کی تعظیم کرنا، کو سردار بنانا، کو مالک بنانا، کو ذلیل کرنا۔ اَرْفَلَ: دامن گھسیٹنا، ناز سے چلنا۔ ـــ ثیابَہٗ: کپڑوں کو لٹکانا۔ کہا جاتا ہے: اَرْفَلَ رِفْلَۃٗ: اس نے اپنا دامن لٹکایا۔ تـرَفَّلَ: تکبر سے ناز کی چال چلنا۔ تـرَفَّلَ علیہ: کا سردار و رئیس ہونا۔ الرِفْل: دامن۔ الـرِفَـل: لمبے دامن والا، لمبی دم والا گھوڑا، بہت گوشت والا، کشادہ کپڑا۔ عَیْش رِفَل: آسودہ زندگی۔ الرَفَّال من الشعر: لمبے بال۔ المِرْفَال من الرجل والنساء: دامن گھسیٹتے ہوئے ناز سے چلنے والا مرد یا عورت۔

۲۔ الرَفَل من البئرِ: کنواں جس کی گہرائی میں تھوڑا سا پانی ہو۔

○ رَفَـلَ ـُ رَفْلاً: لباس کو پیچھے پیچھے گھسیٹنا، اترا کے چلنا، اکڑ کے چلنا، اینٹھ کر چلنا۔ رِفَـل: لٹکتا ہوا پوشاک کا دامن۔

رفہ: ا۔ رَفَہَ ـُ رَفْھًا و رِفْھًا و رُفُوھًا: خوشگوار و آسودہ زندگی والا ہونا۔ صفت: رَافِـہ و رَفْھان۔ ـــ ت الإبلُ: ہر روز جب چاہیں اونٹوں کا پانی پر آنا۔ صفت: رافِھَۃ جمع رَوَافِہ۔ رَفُہَ ـُ رَفاھًا و رَفَاھِیۃً و رَفَـاھَۃً العیشُ: زندگی کا خوشگوار اور آسودہ ہونا۔ صفت: رَافِـہ و رَفِیـہ۔ رَفَّـہَ الرجلَ: کو فراخ و آسودہ حال بنانا۔ ـــ الراعی الإبلَ: چرواہے کا اونٹوں کو ان کی حسب مرضی پانی پر آنے دینا۔ ـ عنہ: کے لئے آسائش اور آرام کا سرچشمہ ہونا، کے لئے آسانیاں پیدا کرنا، کو آرام سے زندگی بسر کرنے دینا، کی پریشانیاں کم کرنا، کے لئے تفریح فراہم کرنا، کو خوش کرنا۔ رُفِّـہَ عنـہ: کی تنگی اور تھکاوٹ کا دور ہونا۔ اَرْفَہَ: آرام لینا۔ ناز و نعمت کی زندگی بسر کرنا۔ ـــ الـرجلَ: کو فراخ و آسودہ حال بنانا۔ ـــ الراعی الإبلَ: چرواہے کا اونٹوں کو ان کی حسب مرضی پانی پر آنے دینا۔ ـ ت الإبلُ: اونٹوں کا پانی کے نزدیک رہنا۔ ـــ القومُ: قوم کے مویشیوں کا حسب مرضی روزانہ پانی پر آنا۔ تـرَفَّہَ و اِسْتَرْفَہَ: آرام لینا، تن آسانی اور آرام کی زندگی بسر کرنا۔ ھو رَافِہٌ بہ: وہ اس پر مہربان ہے۔ الرَفَھَۃ: مہربانی، رحم۔ الرُفَھْنِیَۃ: آرام دہ اور عیش و عشرت کی زندگی۔

۲۔ الرِفْہ: چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت۔

○ رَفُہَ ـُ رَفاھًا و رَفَاھَۃً و رَفَاھِیَۃً: (زندگی کا) پر آسائش، خوشگوار اور عیش و عشرت والی ہونا۔ رَفَّـہَ ہ: زندگی کو خوشگوار اور پر آسائش بنانا۔ ـــ ہ: کو خوشگوار اور پر تعیش زندگی مہیا کرنا۔ ـــ عن/علی: کے لئے تن آسانی اور آسائش کا سرچشمہ ہونا، کو آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے دینا، کا دل بہلانا، کو تفریح بہم پہنچانا۔ ـــ عن ہ: کے لئے کسی چیز کی تکلیف کم کرنا، کو نرم کرنا۔ ـ عن: کا جی خوش کرنا، کی ہمت بلند کرنا، روح کو تسکین پہنچانا۔ رَفَّہَ عن نفسہ: ستانا۔ ـــ ہ: کام سے تفریح پانا۔ رَفَّہَ علی نفسہ: تفریح پانا۔ رِفْـہٌ و رِفـاہ: بہبود، بہبودی، خوشحالی، ذاتی آرام و آسائش، عیش و عشرت، زندگی کی آسائشیں، اچھی زندگی بسر کرنا۔ رَفَـاھَۃ و رَفَـاھِیۃ: آرام دہ عیش و عشرت کی زندگی، عیش و عشرت، آسائش، آسودگی اطمینان، مکمل تفریح و آسائش۔ تـرْفِیہ: آسائش اور عیش و عشرت کی تخلیق، عیش و عشرت کا خوگر کرنا، آسائش اور عیش و عشرت کی بہم رسانی، تفریح، (دماغی) تفریح۔ تـرْفِیـہُ العیش: آرام دہ زندگی، اچھی یا اجلی زندگی۔ قسم الترْفِیہ: تفریح کا شعبہ۔

رفا: ا۔ رَفَـا ـُ رَفْوًا الثوبَ: کپڑے کو درست کرنا،

کپڑے کی مرمت کرنا، کپڑے کو رفو کرنا۔ صفت: رَافٍ جمع رُفَاۃٌ: صفت مفعولی: مَرْفُوٌّ: (رفو کیا ہوا کپڑا) ـــ ہٗ: کے خوف کو فرو کرنا، کا فاقہ دور کرنا۔ رَفَّی تَرْفِیَۃً العریسَ: دولہا کو دعا دینا اور بالرفاء والبنین کہنا جس کا معنی ہے (اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں ملاپ رکھے اور اولاد عطا فرمائے)۔ رَافَی رِفَاءً و مُرَافاۃً الرجلَ: کی موافقت کرنا۔ اَرْفَی الیہ: کی پناہ میں آنا، سے پناہ لینا۔ تَرافَی القومُ علی الامر: کسی معاملہ پر باہم موافقت کرنا۔ الرِفَاء: اتفاق واتحاد۔

۲۔ الأَرْفَی مؤنث رَفْوَاء جمع رُفْو: لمبے اور ڈھیلے کانوں والا۔ الرَافِیۃ (ن): ایک قسم کا پودا۔ جس کی بعض قسموں کے پتوں سے مضبوط ریشے نکلتے ہیں۔

ن رَفَا۔ رَفْوًا ہ: کو رفو کرنا، کی اصلاح کرنا۔

رق: ۱۔رَقَّ ۔رِقَّۃً: پتلا ہونا۔ کہا جاتا ہے: رَقَّتْ عظامُہٗ: وہ بوڑھا اور سن رسیدہ ہوگیا۔ رَقَّقَ ہٗ: کو پتلا کرنا۔ ـــ اللفظَ: لفظ نرمی سے نکالنا۔ ـ الکلامَ: پاکیزہ گفتگو کرنا۔ ـ مَشْیَہٗ: نرم رفتار سے چلنا۔ اَرَقَّ الشیءَ: کو پتلا کرنا۔ ـــ العنبُ: انگور کا باریک چھلکے والا اور زیادہ رس والا ہونا۔ تَرَقَّقَ الشیءُ: پتلا ہونا۔ اِسْتَرَقَّ الشیءُ: پتلا ہونا۔ ـ اللیلُ: رات کا اکثر حصہ گذر جانا۔ ـــ الماءُ: پانی کا خشک ہونے کے قریب ہونا۔ الرُقّ: نرم کشادہ زمین، سمندر یا وادی میں پتلا پانی۔ الرَقّ جمع رُقُوق: پتلا، لکھنے کی پتلی کھال، سفید کاغذ کا تختہ۔ الرِقّ: پتلی چیز، پتلی کھال جس پر لکھا جاتا ہے، درخت کے پتے یا جانور کے لئے آسانی سے حاصل ہونے والی شاخیں، کاغذ کا سفید تختہ، کشادہ و نرم زمین۔ الرَقَق: پتلا پن، کمزوری، کھانے کا پتلا پن، نرم اور کشادہ زمین۔ الرقّۃ جمع رِقَـــاق: پانی سے بھر کر خشک ہوجانے والی زمین۔ الرِقّۃ: باریکی۔ رِقَّۃُ الجانب: کمزوری سے کنایہ ہے۔ ـ العیش: زندگی کی آسودگی۔ الرَقِیق جمع اَرِقَّاء مؤنث رَقِیْقَۃ جمع رِقَاق: پتلا (کہا جاتا ہے: ھو رقیق المعانی: وہ نفیس مطلب والا ہے۔ عیشٌ رقیقُ الحواشی: خوش حال اور آسودہ زندگی۔ لفظ رقیقٌ: آسان و شیریں لفظ۔ رقیق الانف: ناک کا نرم حصہ۔ الرَقِیقان: ناک کے نتھنوں کے کنارے۔ الرُقَاق: پتلا، نرم مٹی والی ہموار کشادہ زمین یا وہ زمین جس کا پانی خشک ہوگیا ہو)۔ ـ واحد الرُقَاقۃ: پتلی پھیلی ہوئی روٹی۔ الرَقَاق: نرم ہموار مٹی والی زمین یا وہ زمین جس کا پانی خشک ہوگیا ہو، صحراء۔ مَـــرَاق البطن: پیٹ کا وہ حصہ جو پتلا اور نرم ہو۔ المُرَقَّق: پتلی ار چوڑی روٹی۔ المِرقاق: بیلن۔ المُسْتَرَق: پتلی چیز۔

۲۔رَقَّ ۔رِقَّۃً لہ: پر رحم کرنا، ترس کھانا۔ اَرَقَّ الواعظُ قلبَہٗ: واعظ کا کسی کے دل کو نرم کر دینا۔ تَرَقَّقَ لہ: پر ترس کھانا، رحم کھانا۔ الرِقّۃ: رحمت۔

۳۔رَقَّ ۔رِقَّۃً وجھُہٗ: شرم وحیا کرنا، الرِقّۃ: شرم، حیاء۔

۴۔رَقَّ ۔رِقَّۃً الرجلُ: بدحال وکنگال ہونا۔ اَرَقَّ الرجلُ: کم مال والا ہونا، کنگال ہونا۔ الرَقِیق: کہا جاتا ہے: رجلٌ رقیقُ الحال: تھوڑے مال والا مرد۔

۵۔رَقَّ ۔رِقًّا العبدُ: بندے کا غلام ہونا یا رہنا۔ اَرَقَّ العبدَ: غلام کا مالک ہونا۔ اِسْتَرَقَّ العبدَ: غلام کا مالک ہونا۔ الرِق (مص): غلامی۔ الرَقِیق: غلام (واحد وجمع دونوں کے لئے آتا ہے) کہا جاتا ہے: عبد رقیقٌ وعبید رقیق: ایک غلام، بہت سے غلام، کبھی اَرِقَّاء جمع بھی استعمال کی جاتی ہے۔ عورت کو رَقِیق اور رقیقۃ کہا جاتا ہے۔

۶۔ رَقَّقَ مابین القوم: قوم کے درمیان فساد ڈالنا۔

۷۔ الرَق جمع رُقُوق (ح): مگرمچھ سے مشابہ ایک آبی جانور۔ (ح): بڑا یا نر کچھوا۔ الرَقّۃ: شہر۔ الرَقَّتانِ: دو شہر اور یہ دو شہر الرَقّۃ والرافقۃ ہیں۔

۸۔ رَقْرَقَ الماءَ: پانی چھڑکنا۔ ـالعینَ: آنکھ سے آنسو بہانا۔ ـــ الخمرَ: شراب میں پانی ملانا۔ تَرَقْرَق الماءُ: پانی کا آنا و جانا، ہلکے ہلکے بہنا۔ ـ ت العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ ـــ الدمعُ: آنسو کا آنکھوں میں ڈبڈبانا۔ ـ ت الشمسُ: آفتاب کا گھومتا ہوا دکھائی دینا۔ الرَقْراق: چمکنے والا۔ ـ من الدمع: آنکھ میں ڈبڈبانے والا آنسو۔ ـ من السحاب: آنے جانے والا بادل۔ الرُقَارِق: سمندر یا وادی کا رقیق پانی، پتلا کپڑا، باریک کپڑا، آبدار تلوار۔

۹۔ رَقْرَقَ الطیبَ فی الثوب: کپڑے میں خوشبو لگانا۔

ن رَقَّ ۔رِقَّۃً: پتلا ہونا یا ہوجانا، باریک ہونا یا ہوجانا، نرم و ملائم ہونا یا ہوجانا، چھریرا ہونا یا ہوجانا، نازک ہونا یا ہو جانا، نفیس و نازک مزاج ہونا یا ہو جانا، خالص ہونا، صاف ہونا، پاک ہونا، شفاف ونتھرا ہوا ہونا (پانی کا)۔ ـ ل: کے لئے نرم ہونا، کے لئے ہمدردی رکھنا، رحمدل ہونا، پر ترس کھانا۔ رقّ لہ قلبُہٗ: کے کام آنا، یا کی مدد کرنا۔ رَقَّقَ ہ: کو پتلا کرنا یا بنانا، کو عمدہ نرم یا ملائم بنانا، نرم کرنا، خالص وصاف بنانا۔ ـــ ہ: اپنی تقریر کو شائستہ، ہموار اور خوبصورت بنانا۔ ـــ ہ: (دھات) کو چکنا کرنا، ہموار کرنا، بیلنا۔ اَرَقَّ ہ: کو باریک بنانا، پتلا بنانا یا کرنا، عمدہ اور نرم بنانا، صاف وشفاف بنانا۔ ـ ہ: دل کو نرم کرنا۔ تَرَقَّقَ ل: کے لئے نرم ہونا، رحمدل ہونا، کے لئے ہمدردی رکھنا، پر ترس کھانا۔ اِسْتَرَقَّ: پتلا ہونا، باریک ہونا، عمدہ ہونا، نرم ہونا نفیس وملائم ہونا۔ ـ ہ: کو نرم کرنا۔ ـ ہ: کو غلام بنانا۔ رَقّ جمع رُقُوق: سمندری کچھوا، بحری سنگ پشت۔ رِق: غلامی۔ رَق و رِق: جھلی، جھلی نما کاغذ۔ رِق: طنبورہ، دف۔ رقۃ: پتلا پن، چھریرا پن، کمی، ناکافی ہونا، تھوڑا ہونا، باریکی، عمدگی، صفائی، کھرا پن، نفاست، نزاکت، نرمی، ملائمت، شرافت، شائستگی، بردباری، حلم، ہلکا پن، دل آویزی، دلکشی، مہربانی، رحمت، دوستی، دوستانہ سلوک۔ ـــ رِقّۃُ الحاشِیۃ: دوستی، دوستانہ سلوک، دل آویزی، دلکشی، شائستگی۔ رقۃ الشعور: احساس، احساس کی نزاکت، سلیقہ، عقل، ہوشیاری، موقع شناسی۔ رقۃ الطبع: مہربانی، شرافت، شائستگی، نرم مزاجی، دوستی، دوستانہ سلوک۔ رقۃ المزاج: شرافت، شائستگی، نرم طبع۔ رُقَاق: روٹی، چپاتی۔ رقیق جمع اَرِقَّاء و رِقَاق: غلام (واحد جمع) روٹی، چپاتی، پتلا، باریک، دبلا پتلا، چھریرا، تھوڑا، ناکافی، عمدہ، نازک، اچھا، خوب، نرم ملائم، نرم و نازک، شریف، شائستہ، زود رنج، نازک دماغ، موقع شناس، ہوشیار، زیرک، ہوشمند، دوراندیش۔ تجارۃ الرقیق: غلاموں کی تجارت۔ رقیق الحال: غریب، حاجتمند۔ رقیق الحاشیۃ (الحواشی): مہربان، دوستی کا برتاؤ رکھنے والا، مشفق، خلیق، خوش خلق، مہذب، باادب، بامروت، ملنسار، دلاویز، دلکش، قابل محبت۔ رقیق الشعور: ذی حس، حساس، زود رنج، زود اثر، فوراً اثر قبول کرنے والا۔ رقیق الطبع: مہربان، شریف، شائستہ، سلیم الطبع، شیریں طبع، دوستی کا برتاؤ رکھنے والا۔ رقیق المزاج: شریف دل۔ رَقِیقَۃ: ورق، پرت، چھلکا، تہہ، پتری، پاپڑ، پتلا چوڑا چھلکا۔ اَرَق: زیادہ پتلا زیادہ باریک، زیادہ دبلا پتلا، زیادہ کمزور، زیادہ نازک۔ مِرقاق: بیلن۔ مَرْقُوق: پتلی، باریک پاپڑ نما پیسٹری۔

رقا: ۱۔رَقَأَ ۔رَقْأً و رُقُوءًا الدمعُ او الدمُ: آنسو یا خون کا خشک ہونا، نکلنا بند ہونا، رکنا۔ رَقَأَ فی الدرجۃ: سیڑھی پر چڑھنا۔ اَرْقَأَ الدمَ او الدمعَ: خون یا آنسو کو خشک کرنا، روکنا۔ کہا جاتا ہے: لا اَرْقَأَ اللّٰہُ دمعتَہٗ: اللہ تعالیٰ اس کا ایک آنسو بھی نہ نکالے۔ الرَقُوء: خون بند کرنے والی چیز، خون روکنے والی چیز۔ المَرْقَأۃ۔

المِرْقَاةُ: سیڑھی، زینہ۔

۲۔رَقَأَ ۔رَقْأً بینھم: کے درمیان صلح کرانا، فساد ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: ارقأ علی ظَلْعِكَ: اپنی جان پر رحم کرو طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ الرَقُوْ: لوگوں میں صلح کرانے والا۔

ⓒ رَقَأَ ۔رَقْأً و رُقُوءًا: آنسوؤں کا بہنا بند ہونا۔

رقب: ا۔رَقَبَ ۔رُقُوبًا و رَقُوبًا و رَقَابَةً و رِقْبَانًا و رِقْبَةً و رَقْبَةً ہٗ: کی نگرانی کرنا، کا انتظار کرنا، کو ڈرانا۔ ۔ النجمَ: ستاروں کی دیکھ بھال کرنا، ستاروں کا مشاہدہ کرنا۔ رَاقَبَ ہٗ: کی نگہبانی کرنا۔ اَرْقَبَ ہٗ الدارَ: گھر کسی کے لئے رقبی کرنا (دیکھو رقبی)۔۔ ہٗ الرُقْبَی: کو مکان وغیرہ تازیست دے دینا۔ تَرَقَّبَ ہ: کا انتظار کرنا۔ تَرَاقَبَا: ایک دوسرے کی نگرانی نگہبانی کرنا۔ اِرْتَقَبَ ہٗ: کا انتظار کرنا۔۔ المکانَ: کسی جگہ پر چڑھنا۔ الرُقْبَۃ: چیتے کے شکار کے لئے گڑھا۔ الرِقْبَۃ: نگہبانی، احتیاط، تحفظ، بچاؤ۔ کہا جاتا ہے: وَرِثَ مالاً عن رِقْبَةٍ: اس نے مال اپنے آباواجداد سے ورثہ میں نہیں پایا بلکہ دور کے رشتہ دار سے پایا۔ ورث مجداً عن رقبة: اس کے آباواجداد مجد و بزرگی کے مالک نہ تھے، کہ ان سے مجد و بزرگی پائی ہو۔ الرُقْبَی: کوئی شخص دوسرے کو گھر وغیرہ اس شرط پر دے کہ اگر میں تجھ سے پہلے مرگیا تو گھر وغیرہ تیرا ہوگا اور اگر تو مجھ سے پہلے مرگیا تو گھر مجھے واپس مل جائے گا۔ الرَقِیْب جمع رُقَبَاء: نگہبان (کہا جاتا ہے: ھو رقیبُ نفسہ: وہ خود ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والا ہے اس لئے دوسروں کو ملامت کرنے کا موقع نہیں دیتا) محافظ، انتظار کرنے والا، جوئے کے تیسرے تیر کا نام۔ (فلک): ایک ستارے کا نام۔ (ا ع): سارجنٹ، پسماندگان، چچازاد بھائی۔۔ جمع رُقُب و رقیبات (ح): ایک نہایت زہریلا سانپ۔ رقیب الجیش: دیدبان۔ رقیبُ الشمسِ (ن): ایک قسم کا پودا۔ الرَقُوب: میراث کے لئے اپنے شوہر کی موت کا انتظار کرنے والی عورت، وہ عورت جس کا بچہ مرگیا ہو یا جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔۔ من الشیوخ و الارامل: نہ کما سکنے والا بوڑھا یا بیوہ، بوڑھا یا بیوہ جس کی کمائی (آمدنی) نہ ہو۔ امُّ الرَقُوبِ: مصیبت۔ المَرْقَب و المَرْقَبَة جمع مَرَاقِب: نگرانی کرنے کی اونچی جگہ، نگرانی کا برج، فوجی چوکی۔ المِرْقَب: ٹیلیسکوپ، دوربین، ستاروں اور اجرام فلکیہ کی دیکھ بھال کا آلہ۔ المُرَاقَبَة: مالک کی غیر موجودگی میں مال کی نگرانی کرنے والا۔

۲۔رَقَبَ ۔رُقُوبًا و رَقُوبًا و رَقَابَةً و رِقْبَانًا و رِقْبَةً و رَقْبَةً ہٗ: کی گردن میں رسّی ڈالنا۔ الرَقَب: گردن کی موٹائی۔ الرَقَبَة جمع رِقَاب و رَقَبَات و رَقَب و اَرْقُب: گردن، گدی (سو) بربط کا بالائی حصہ، غلام (جزء اشرف بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔) کہا جاتا ہے: ھم غلاظُ الرِقاب: وہ موٹی گردنوں والے ہیں۔ مراد وہ غیر مہذب و بدتہذیب ہیں۔ رَقَبَةُ الطریق فی اصطلاح اھل الشرع: وہ زمین جس میں سے راستہ گزرتا ہو۔ کہا جاتا ہے: مَلَكَ رقبة الطریقِ: وہ راستہ والی زمین کا مالک ہے۔۔ الماء عند اھل الشرع: پانی بہنے کا نالہ۔ کہا جاتا ہے: مَلَكَ رقبة الماء: وہ پانی کی گذرگاہ اور بہنے کی جگہ کا مالک ہے۔ الاَرْقَب: مؤنث رَقْبَاء و الرقبان و الرَقَبَانی: موٹی گردن والا۔

۳۔رَاقَبَ اللّٰہَ فی امرہ: اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ الرِقْبَة: خوف۔

ⓒ رَقَبَ ۔رُقُوبًا و رَقَابَةً ہ: کا مشاہدہ کرنا، توجہ سے کسی چیز کو نظر میں رکھنا، دیکھنا، پر غور کرنا، دھیان میں لانا، کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، کو جانچنا، تابع رکھنا، اختیار یا قابو میں لانا، کا انتظار کرنا، کا منتظر رہنا، کی راہ دیکھنا۔۔ رُقُوبًا ہ: کی حفاظت کرنا، کو بچائے رکھنا، کی نگہبانی کرنا، کو مدنظر رکھنا، پیش نظر رکھنا، کی طرف توجہ کرنا، کا پاس کرنا، لحاظ کرنا، پر کان دھرنا، پر عمل کرنا۔۔ ہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔۔: چوکنا ہونا، چوکس ہونا، ہوشیار ہونا، محتاط ہونا، احتیاط کرنا۔ لایرقب فیہ اِلًّا ولاذِمَّةً: کے ساتھ سختی یا سنگدلی سے پیش آنا یا سلوک کرنا یا برتاؤ کرنا۔ راقَبَ ہ/ہ: کا مشاہدہ کرنا، کو نظر میں رکھنا، دیکھنا، توجہ سے یا بغور دیکھنا، کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، پر کڑی نظر رکھنا۔۔ ہ: کو دور سے دیکھ کر اندازہ لگانا، کا پتہ لگانا، کو دریافت کرنا (غلطی جرم وغیرہ) پکڑنا۔۔ ہ: (ٹریفک، پریس، کسی کے کام) پر کنٹرول کرنا (کسی کام) کی نگرانی کرنا، کسی کے لین دین، تعلقات) پر نظر رکھنا۔۔ ہ: (اللہ تعالیٰ) سے ڈرنا۔ راقَبَ اللّٰہ فیہ: کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کے ساتھ اللہ کے خوف کی وجہ سے اچھا سلوک کرنا۔ ترقّب ہ: کی توقع کرنا، امید کرنا، (متوقع چیز) کا اندازہ کرنا، کی پیش بینی کرنا، کی راہ دیکھنا۔۔ ہ/ہ: کا انتظار کرنا، کی تلاش کرنا، کا منتظر ہونا۔۔ ہ: کو بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کی طرف دیکھنا، کی گھات میں بیٹھنا۔ اِرْتَقَبَ ہ: کی توقع کرنا، امید کرنا، (متوقع چیز) کا اندازہ کرنا، کی پیش بندی کرنا، کی پیش بینی کرنا، کا پہلے سے اندازہ کرنا۔ رِقْبَة: مشاہدہ، کنٹرول، توجہ، چوکسی، خبرداری، ہوشیاری، احتیاط، بیدار مغزی۔ رَقَبَة جمع رَقَبَات و رِقَاب: گردن۔۔ جمع رقاب: غلام، (اسلامی قانونی میں) شخص۔ رقبةِ جِسْر: سرحدی دریا کے پار دشمن کے علاقہ میں بڑھا ہوا مورچہ (bridge head)۔ صُلْبُ الرَقَبَة: ضدی، ہٹیلا، سرکش، ثابت قدم، خودرائے، متمرد، کج بحث، غوغائی شور وغل مچانے والا، فسادی، جھگڑالو۔ غلیظُ الرقبة: بمعنی صُلْبُ الرقبة۔ ھذا فی رِقابِھِم: اس کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے۔ اخذ بعضُھم برقاب بعض: ایک دوسرے کے بعد تواتر سے آنا۔ رُقُوب: توقع، پیش بینی، پیش بندی۔ رَقِیب جمع رُقَبَاء: ہوشیار، چوکس، چوکنا، محافظ، سرپرست، والی، نگہبان، نگران، رکھوالا، دربان، پاسبان، منتظم مہتمم، داروغہ، سنتری، چوکیدار، دشمن کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرنے والا، اہل نظر، مشاہد، مشاہدہ کرنیوالا، ناظر، خطرہ وغیرہ کے مقابلہ کے لئے تیار، جاسوس، اورسیئر، سپروائزر، انسپکٹر، کنٹرولر، کنٹرول آفیسر، ڈاک سنسر کرنے والا، سارجنٹ۔ رقیب اوّل: شاف سارجنٹ۔ رُقْبَی: عطیہ اس شرط کے ساتھ کہ یہ اس شخص کی وفات کے بعد جسے دیا گیا ہے عطیہ دینے والے کو واپس ہو جائے گا یا عطیہ دینے والے کی وفات پر اس شخص کی ملکیت ہو جائے گا جسے دیا گیا ہے۔ رَقَابَة: نگرانی، کنٹرول، (پریس کی) سنسر شپ۔ رَقُوبَة و رَاقُوبَة: اندوختہ۔ مَرْقَب و مَرْقَبَة: اونچی جگہ کڑی نگاہ رکھنے کی جگہ Observation post۔ او پی۔ کڑی نگاہ رکھنے کی جگہ، نگہبانی کا برج، رصدگاہ۔ مِرْقَب: ٹیلی سکوپ Telescope۔ دوربین۔ مُرَاقَبَة: مشاہدہ، کڑی نظر رکھنا، نگرانی، معائنہ، کنٹرول (پریس کی) سنسر شپ، (ڈاک کی) سنسر شپ، معائنہ کا علاقہ، حلقہ۔ تَرَقُّب: توقع، پیش بینی، پیش بندی۔ اِرْتِقَاب: توقع، پیش بینی، پیش بندی۔ مُرَاقِب جمع مراقبون: مشاہدہ کرنے والا، مبصر، اورسیئر، سپروائزر، انسپکٹر، کنٹرولر، کنٹرول آفیسر، سنسر کرنے والا، سارجنٹ میجر، کوارٹر ماسٹر سارجنٹ۔ مُرَاقِبُ تعلیم: ماسٹر سارجنٹ۔ مراقب تعیین: کوارٹر ماسٹر سارجنٹ۔ مراقب مدنی: مقامی اعلیٰ اہلکار۔ مراقب الخطوط: نائب ریفری، حدداد (lines man)۔

رقح: رَقَّحَ مالَهُ: مال کی اصلاح کرنا، انتظام کرنا۔

تَرَقَّحَ لِعِيَالِهِ: اپنے عیال کے لئے کمانا۔اِرْتَقَحَ: زیادہ ہونا۔الرَّاقِحَة: کہا جاتا ہے:ھو راقِحَةُ اھلِهِ: وہ اہل وعیال کے لئے کمانے والا ہے۔الرَّقَاحَة: کمائی، تجارت۔الرَّقَّاحِيّ: تاجر، سوداگر۔

رقد: اِرَقَدَ ـُ رَقْدًا و رُقُودًا و رُقَادًا: سونا صفت: رَاقِد جمع رُقُود و رُقَّد۔ ـــ الحرُّ: گرمی کا گھٹنا ـــ ت السوقُ: بازار کا سرد پڑنا ـــ عن الامر: کام سے غافل ہونا ـــ عن ضيفه: مہمان کی خبر گیری نہ کرنا۔اَرْقَدَهُ: کو سلانا ـــ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔تَرَاقَدَ: اپنے آپ کو سوتا ظاہر کرنا۔اِسْتَرْقَدَ: پر نیند کا غلبہ ہونا۔الرَّقْدَة: نیند۔ کہا جاتا ہے:اصابتنا رَقْدَةٌ من الحرّ: ہم کو تقریباً دس روز کی گرمی پہنچی۔الرُّقَدَة و اليَرْقُود: بہت سونے والا۔الرَّقُود: ہمیشہ سونے والا۔کہا جاتا ہے: اِمرأة رقودُ الضُّحَى: چاشت تک سونے والی عورت یعنی خوشحال وآسودہ حال عورت۔المُرْقِد (طب): افیون کی طرح کی ایک سلا دینے والی دواء، خواب آور دواء، صاف کھلا راستہ۔المَرْقَد جمع مَرَاقِد: خواب گاہ۔تَرْقِيدُ البَيْضِ: سینے کے لئے مرغی کے نیچے انڈے رکھنا۔الرَّاقُود جمع رَوَاقِيد: بڑا مٹکا (فارسی لفظ)۔

۲۔تَرَاقَدَ القومُ علی فلان: قوم کا کسی کے خلاف مدد دینا۔اِرْقَدَّ اِرقِدادًا: جلدی کرنا۔الرَّقَدَانُ: بکری وغیرہ کے بچہ کی کلیل۔الترْقِيد: ایک قسم کی چال۔

ⓒ رَقَدَ ـُ رَقْدًا و رُقُودًا و رُقَادًا: سونا، سویا ہوا ہونا، آرام کے لئے لیٹنا، لیٹنا، آرام کرنا، کم ہونا، مدھم پڑنا، اتر جانا، بیٹھ جانا، دب جانا، فرو ہونا (طوفان وغیرہ) کا زور کم ہونا، پرسکون ہونا، نڈھال ہونا، (بازار کا) سرد ہونا، ٹھنڈا پڑنا۔رَقَدَ علی البیض: (مرغی کا) انڈوں پر بیٹھنا۔رَقَّدَه: کو سلانا، لٹانا، کو بستر پر لٹانا۔اَرْقَدَه: کو سلانا، بچہ کو بستر پر لٹانا۔رِقْدَة: نیند، لیٹنے کا انداز، لیٹنے کی وضع، حالت۔رُقَاد: نیند، لیٹا ہوا ہونا، لیٹنے کی وضع۔رُقُود: نیند، لیٹا ہوا ہونا، لیٹنے کی وضع، سوئے ہوئے (جمع) رَاقُود جمع رَوَاقِيد: بڑا جگ۔مَرْقَد جمع مَرَاقِد: بستر، کوچ، آرام کی جگہ، مقبرہ، روضہ، درگاہ۔تَرْقِيد: انڈے سینا۔تَرْقِيدَة: داب، درخت کی شاخ جو مٹی میں دبا دی گئی ہو۔رَاقِد جمع رُقَّد و رُقُود: سونے والا، سویا ہوا، لیٹا ہوا، تکیہ لگا کر بیٹھا یا لیٹا ہوا، آرام کرنے والا، خاموش، پرسکون، سرد (بازار)۔مُرَقِّد: خواب آور لوری یا تھپک کر سلانے والا۔جمع مُرَقِّدات: خواب آور دوائیں۔

رقز: رَقَزَ ـِ رَقْزًا: ناچنا ـــ العرقُ: رگ کا اچھلنا۔الرَّقَّاز: ناچنے والا۔

رقش: ارَقَشَ ـُ رَقْشًا هُ: پر نقش کرنا ـــ الكلامَ: کو لکھنا، سجانا۔رَقَّشَ الكلام: کو سجانا، لکھنا، گھڑنا ـــ الرجلُ: چغلی کھانا ـــ الرجلَ: پر عتاب کرنا۔تَرَقَّشَ: مزین ہونا، آراستہ ہونا، سجنا۔اِرْتَقَشَ: اپنا حسن اور اپنی زینت دکھانا۔

۲۔رَقَّشَ الصحيفة: کی سطریں کرنا۔اِرْتَقَشَ الجيشُ: لشکر کا لڑائی میں آپس میں گتھ جانا۔الرُّقْش و الرُّقْشَة: رنگ جس میں مٹیالا پن اور سیاہی ہو۔الأَرْقَش مؤنث رَقْشَاء: سیاہ وسفید نقطوں والا۔الرَّقْشَاء (ح): ایک کیڑا ـــ من الحيَّاتِ: کوڑیالا سانپ۔الرَّقَّاش: سانپ۔الرَّقْشَاء: بوقت مستی اونٹ کے منہ کی جھاگ۔

ⓒ رَقَشَ ـُ رَقْشًا رَقَّشَ هُ: کو مختلف رنگوں سے بوقلموں بنانا، میں مختلف رنگوں کے ٹکڑے لگانا، کو رنگا رنگ بنانا۔رَقَّشَ هُ: کو سجانا، کی آرائش کرنا، کو آراستہ کرنا، کی سج دھج کرنا، کو سنوارنا، سنگارنا، حسین بنانا۔اَرْقَش: بوقلموں، رنگا رنگ کا، کئی رنگوں کا، رنگدار، رنگین۔مِرْقَاش جمع مَرَاقِيش: (مصور کا) برش۔

رقص: ارَقَصَ ـُ رَقْصًا: ناچنا، موسیقی یا گانے پر ناچنا، مضطرب ہونا ـــ النبيذُ: نبیذ کا جوش میں آنا ـــ فی الكلام: تیزی سے بولنا ـــ رقصًا و رَقَصًا و رَقَصَانًا الجملُ: اونٹ کا دوڑنا۔رَقَّصَ و اَرْقَصَ هُ: کو نچانا۔کہا جاتا ہے اَرْقَصَ القومُ فی سيرهم: لوگوں کا چلنے میں اوپر نیچے ہونا۔تَرَقَّصَ الشیءُ: چیز کا تیزی سے اوپر نیچے ہونا۔اِرْتَقَصَ السعرُ: بھاؤ کا چڑھنا۔الرَّقَّاص: بہت ناچنے والا پیشہ ور رقاص ـــ البسيطُ (حی): دھاگے کے ذریعے ایک نقطہ سے لٹکتا ہوا چھوٹا سا ڈنڈا ـــ الثِقْلِيّ: بوجھ سے محور کے گرد ہر ہلنے والا جسم، اغلبًا افقیا۔رَقَّاصُ الساعة: گھنٹے کا پنڈولم۔الرَّقَّاصَة: الرَّقَّاص کا مؤنث: بہت ناچنے والی، پیشہ ور رقاصہ، عربوں کے ایک کھیل کا نام۔شِعْرٌ مُرْقِص: نچا دینے والا شعر یعنی اپنے بیان کی خوبی سے سننے والے کو وجد میں لانے والا شعر۔فَلاةٌ مُرْقِصَةٌ: بیابان جو چلنے والے کو جلدی کرنے کا باعث ہو۔

۲۔المُرَقَّصَة: بنجر زمین۔

ⓒ رَقَصَ ـُ رَقْصًا: ناچنا، (گھوڑے) کا پچھلی ٹانگوں پر اچھلنا، کلول کرنا (علی) کسی دھن پر۔رَقَصَ فَرَحًا: خوشی سے ناچنا۔رَقَّصَ هُ: کو نچانا ـــ هُ: کسی چیز کو جھلانے لگنا، (دل وغیرہ) کو تھرانا۔رَقَصَ القلبُ [illegible]: بلند قہقہہ کا باعث بنا۔رَاقَصَ ها: (کسی لڑکی) کے ساتھ رقص کرنا۔اَرْقَصَ هُ: کو نچانا ـــ هُ: (دل وغیرہ) کو تھرانا۔تَرَاقَصَ: (دل کا) کانپنا ـــ حرکت کرنا، رقص کرنا۔رَقْص: ناچنا، رقص۔مُعَلِّمُ الرَّقْص: ناچ سکھانے والا۔رَقْصَة: ناچ، رقص۔جمع رَقَصَات۔رَقَّاص: (پیشہ ور) ناچنے والا، پنڈولم۔رَقَّاص: لٹکتا ہوا ڈنڈا جو جھولنے کیلئے آزاد ہو۔رَقَّاصه: ناچنے والی، رقاصہ۔مَرْقَص جمع مَرَاقِص: ناچنے کا ہال، بال روم، ناچ، رقص، محفل رقص، ناچ سبھا۔رَاقِص: ناچنے والا، ناچتا ہوا۔حَفْلَةٌ رَاقِصَة: رقص، محفل رقص، ناچ سبھا۔موسیقی رَاقِصَة: رقص کی موسیقی۔لَيْلَةٌ رَاقِصَةٌ: رقص کی پارٹی۔رَاقِصَة جمع رَاقِصات: ناچنے والی، گھٹنے کی چپنی ہڈی۔مُرَاقِصَة: ساتھ ناچنے والی، رقص میں شریک خاتون۔

رقط: رَقِطَ ـَ رَقَطًا: سیاہ پر سفید یا سفید پر سیاہ نقطے والا ہونا۔رَقَّطَ علی الثوب: کپڑے پر روشنائی کے چھینٹے دے کر اس کو داغدار کرنا۔تَرَقَّطَ و ارْقَطَّ ارْقِطاطًا و اِرْقَاطَّ اِرْقِيطاطًا: سیاہ سفید دھبوں والا ہونا۔صفت اَرْقَط م رقطاء جمع رُقْط۔الرُّقْطَة: سیاہ پر سفید یا سفید پر سیاہ داغ۔الأَرْقَط (ح): چیتا۔الرَّقْطَاء: فتنہ وفساد (ن): آرائش کے لئے لگایا جانیوالا ایک پودا۔

ⓒ رَقَّطَ هُ: پر دھبے ڈالنا، چھیتی ڈالنا۔اَرْقَط: چتلا، داغدار، دھبے دار، چیتا۔

رقع: ارَقَعَ ـَ رَقْعًا الثوبَ: کپڑے پر پیوند لگانا۔رَقُعَ ـُ رَقَاعَةً: بیوقوف ہونا، بے شرم ہونا۔صفت: رَقِيع و اَرْقَع و مَرْقَعَان۔رَقَّعَ تَرْقِيعًا الثوبَ: کپڑے پر پیوند لگانا۔کہتے ہیں:رَقَّعَ دُنْيَاهُ بآخرتِهِ: اس نے اپنی دنیا کی اصلاح اپنی آخرت سے کی۔ھو صاحبُ تَرْقِيعٍ و تَوْصِيلٍ: وہ لمبی بات کرنے والا ہے۔اَرْقَعَ الثوبُ: کپڑے کا قابل مرمت اور پیوند کے قابل ہونا ـــ الرجلُ: حماقت وبے وقوفی ظاہر کرنا۔اِرْتَقَعَ: کہا جاتا ہے:ما اِرْتَقَعَ بِهِ و لَهُ: اس نے اس پر نہ توجہ دی اور نہ اس میں دلچسپی لی۔اِسْتَرْقَعَ الثوبُ: کپڑے کا قابل مرمت اور پیوند کے قابل ہونا۔الرَّقْع (فلك): اگلوں کے نزدیک ساتواں آسمان۔الرَّقِيع جمع اَرْقِعَة (فلك): آسمان یا اگلے لوگوں کے نزدیک پہلا آسمان، احمق۔الرُّقْعَة جمع رُقَع و رِقَاع: پیوند لگانے کا کپڑے کا ٹکڑا، کاغذ کا ٹکڑا جس پر لکھا جائے (ف ج): کاغذ،

لکڑی یا پتھر کا اوزار جو فنکار اپنے عمل کو مکمل کرنے کے لئے چنے، پہلی خارش۔ کہا جاتا ہے: فی هذا الجمل رقعة من الجرب: اس اونٹ میں پہلی خارش ظاہر ہوئی۔ رُقْعَةُ الأرض: زمین کا ٹکڑا، قطعہ، زمین، پلاٹ۔ — الشيء: کسی چیز کی اصل یا حقیقت۔ — الثوبِ المنقوش: اصلی کپڑا جس پر نقش ونگار بنائے گئے ہوں۔ — الشِطْرَنج: شطرنج کی بساط۔ الرَّقْعَاء: ارقع کا مونث۔ بقرة رَقْعَاء: مختلف رنگوں والی گائے۔ المُرْتَقَع: کپڑے میں پیوند لگانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: لا ارى فيه مُرْتَقَعًا: میں اس میں عیب گیری یا اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں پاتا۔ جوعٌ يَرْقُوع: سخت بھوک۔

۲۔ رَقَعَ ـَ رَقْعًا الغَرَضَ بسهمه: نشانہ پر تیر مارنا۔ — الرجلَ: کی ہجو کرنا۔ — ذَنَبَهُ بالسوط: کی دم پر کوڑا مارنا۔ رُقْعَةُ الغَرَض جمع رُقَع و رِقاع: نشانہ۔ الرَّقْعَة: نشانہ پر تیر لگنے کی آواز۔

۳۔ رَقَعَ ـَ رَقْعًا الشيخُ: بوڑھے کا ہتھیلیوں سے سہارا لے کر اٹھنا۔

۴۔ رَقَعَ ـَ رَقْعًا فی السیر: تیز چلنا۔

۵۔ رَاقَعَ الخمرَ: شراب کا عادی بننا۔

۶۔ تَرَقَّعَ البلاد: ارزانی کے زمانہ میں ملک میں کمائی کرنا۔

◌ رَقَعَ ـَ رَقْعًا ہ: کپڑے پر پیوند لگانا۔ رَقُعَ ـُ رَقَاعَةً: بیوقوف ہونا۔ رَقَّعَ ہ: کپڑے پر پیوند لگانا۔ رُقْعَة جمع رُقَع و رِقَاع: پیوند، کپڑے کا ٹکڑا، قطعہ، زمین، خطہ، زمین، علاقہ، قطعہ، ٹکڑا (زمین کا)، (جھنڈے کی) زمین، شطرنج کی بساط، کاغذ کی سلپ، کاغذ کا ٹکڑا، نوٹ، مختصر پیغام، ٹکٹ، کوپن، بونڈ، ضمانت، کتابت کا ایک شکستہ یا رواں خط۔ رَقِيع: بیوقوف، بے شرم، بے حیا، گستاخ، بدتمیز، جمع اَرْقِعَة: آسمان، فلک۔ رَقَاعَة: بیوقوفی، حماقت۔ مُرَقَّعَة و مُرَقَّعِية: دھجی، چیتھڑا۔ تَرْقِيع: پیوندکاری۔ تَرْقِيعُ القَرْنِيَة: آنکھ کے ڈھیلے کے بیرونی پردہ کی منتقلی۔ مُرَقَّعات: ٹکڑے، ٹوٹے ہوئے حصے۔

رقل: ۱۔ اَرْقَلَ: جلدی کرنا۔ — المفازةَ: بیابان کو طے کرنا، عبور کرنا۔ المِرْقال و المُرْقِل و المُرْقِلَة من الابل جمع مَرَاقِيل و مَرَاقِل و مُرْقِلات: تیز رفتار اونٹ۔

۲۔ اَرْقَلَتِ النخلة: کھجور کے درخت کا لمبا ہونا۔ الرَّقْلَة جمع رِقَال و رَقْل: کھجور کا لمبا درخت۔ الرَّاقُول: کھجور کے درخت پر چڑھنے کی رسی۔

رقم: ۱۔ رَقَمَ ـُ رَقْمًا: لکھنا۔ — الكتابَ: کتاب پر اعراب و نقطے لگانا۔ — الثوبَ: کپڑے پر دھاریاں ڈالنا۔ — الخبزَ: روٹی پر نقش بنانا۔ — البعيرَ: اونٹ کو داغ لگانا۔ کہتے ہیں: فلانٌ يَرْقُمُ على الماء: فلاں شخص کاموں میں غضب کی سمجھ رکھتا ہے۔ رَقَّمَ: لکھنا۔ — الكتابَ: کتاب پر اعراب و نقطے لگانا۔ الرَّقْم (مص) جمع اَرْقام و رُقُوم: مہر، نقش و نگار والا دھاریدار کپڑا یا دھاری دار چادر۔ — القياسى عند الرياضيين: ریکارڈ۔ کہا جاتا ہے: ضَرَبَ الرقم القياسيَّ: اس نے ریکارڈ قائم کیا۔ الارقامُ الهندية: ہندسے، جیسے ۱، ۲، ۳، وغیرہ۔ الرَّقْم و الرُّقْمَة: ارقم کا رنگ۔ الرَّقِيم: کتاب، لکھا ہوا۔ الأَرْقَم: قلم۔ — جمع اَرَاقِم (ح): ایک بہت زہریلا سانپ، سفید و سیاہ رنگ کا سانپ۔ مونث کو رَقْشاء کہا جاتا ہے رَقْمَاء نہیں کہا جاتا۔ المِرْقَم جمع مَرَاقِم: قلم، لکھنے یا نقش کرنے کا آلہ، داغ لگانے کا آلہ۔ کتابٌ مَرْقُوم: واضح لکھی ہوئی کتاب۔ ثورٌ مرقومُ القَوائِمِ: وہ بیل جس کی ٹانگوں پر سیاہ دھاریاں یا داغ ہوں۔

۲۔ الرُّقْم (مو): کھال یا اون وغیرہ کا ٹکڑا جو بربط کے منہ سے چپکایا جاتا ہے۔ — و الرِّقْم و بنتُ الرِّقْم: مصیبت۔ کہا جاتا ہے: جَاءَ بالرِّقْمِ الرَّقْمَاء: وہ بڑی مصیبت لے کر آیا۔ جَاءَ بالرَّقْم و الرِّقْم: وہ بہت کچھ لایا۔ الرَّقْمَة: وادی کا پہلو، وادی میں پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ، باغ، (ن) خُبازی: کہا جاتا ہے: ما وجدت فی الارض الارْقُمَةً من كلاءٍ: میں نے زمین میں صرف تھوڑا سا گھاس پایا۔ الرَّقَمَة (ن): ایک قسم کا پودا۔ ارضٌ مَرْقُومَةٌ: تھوڑے پودوں والی زمین۔

◌ رَقَمَ ـُ رَقْمًا ہ: کچھ لکھنا۔ (ہ): (متن) کو اعراب اور نقطے لگانا، (گھوڑے) کو داغنا، (نشان علامت) نقش کرنا، پر نشان لگانا، (کپڑے پر) دھاریاں بنانا، پر نمبر لگانا۔ رَقَّمَ ہ: (متن) پر اعراب لگانا، نقطے لگانا۔ — ہ: پر دھاریاں ڈالنا، خط یا لہریں ڈالنا، پر نمبر لگانا، لکیر کھینچنا۔ رَقْم جمع اَرْقَام: عدد، نمبر۔ الأَرْقَامُ الهِنْدِيَة: عربی اعداد۔ رقم القياس و رقم قياسى: ریکارڈ (کھیلوں میں)۔ سَجَّلَ رَقْمًا قِياسِيًّا: ریکارڈ قائم کرنا۔ رَقِيم: کتبہ، مکتوب، پیغام۔ مِرْقَم جمع مَرَاقِم: ڈرائنگ (کرنے والی) پنسل، رنگدار چاک، رنگین کھریا، رنگین گچ، مصور یا (رنگساز کا) برش۔ تَرْقِيم: نقطے لگانا، اعراب لگانا، نمبر لگانا۔ مَرْقُوم جمع مَرَاقِيم: دھاریدار کمبل یا چادر۔

رقن: رَقَنَ ـُ رَقْنًا ت الجاريةُ: لڑکی کا مہندی لگانا۔ رَقَّنَ تَرْقِينًا: کتاب کو مزین کرنا، سجانا، خط یا تصاویر کو قریب قریب کرنا۔ — ہُ: کو لکھنا۔ — لحيتَهُ: اپنی داڑھی پر خضاب لگانا۔ — الكتابَ: کتاب کو سجانا اور خوبصورت بنانا، کی سطریں قریب قریب کرنا۔ — الخطَّ: پر نقطے لگانا۔ اَرْقَنَ لحيتَهُ: اپنی داڑھی کو خضاب لگانا۔ — و تَرَقَّنَ و اِرْتَقَنَ و اِسْتَرْقَنَ: (مہندی یا زعفران سے) خضاب لگا ہوا ہونا۔ الرِّقان و الرَّقُون و الإِرْقَان (ن): مہندی یا زعفران۔ الرَّقِين و المَرْقُون: لکھا ہوا۔ التَّرْقِين: رَقَّنَ کا مصدر۔ التَّرْقِينَة: کا ''ۃ'' ایک بار کے معنی میں ہے۔ المُرَقِّن: کتاب کو مزین کرنے والا۔

رقو: الرَّقْو و الرَّقْوَة: ریت کا بلند اور گول ٹیلا۔

◌ رقوص: تَرَقْوُصَ: اپنے آپ کو ادھر ادھر پھینکنا، لڑھکنا۔

رقی: ۱۔ رَقِيَ ـَ رَقْيًا و رُقِيًّا الجبلَ و فيه و اليه: پہاڑ پر چڑھنا۔ کہا جاتا ہے: ارْقَ على ضَلْعِكَ: اتنا چڑھو جتنا چڑھ سکو اور اپنے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ رَقَّى تَرْقِيَةً ہُ: کو اوپر کرنا، پر چڑھانا، کو اٹھانا۔ تَرَقَّى تَرَقِّيًا الجبلَ و فيه و اليه: پہاڑ پر چڑھنا۔ — فی السُّلَّم: ایک ایک ڈنڈا کر کے پایہ بہ پایہ سیڑھی پر چڑھنا۔ — به الامرُ: کسی امر کی انتہاء کو پہنچنا۔ کہا جاتا ہے: مازال فلانٌ يترقّى به الامرُ حتى بلغ غايتَهُ: کے معاملہ ایک حالت سے دوسری میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ انتہا کو پہنچ گیا۔ — الرجُلَ: کی ہنسلی کی ہڈی پر مارنا۔ تَرَاقَى امرُهم إلى الفساد: ان کا معاملہ فساد تک جا پہنچا۔ اِرْتَقَى اِرْتِقَاءً الجبلَ و فيه و اليه: پہاڑ پر چڑھنا۔ — فی السُّلَّم: سیڑھیاں چڑھنا۔ — به الامرُ: کا معاملہ کا اپنی انتہا کو پہنچنا۔ الرَّقَّاء: پہاڑوں پر چڑھنے والا۔ التَّرْقُوَة (ع ا): ہنسلی کی ہڈی۔ المَرْقَى و المَرْقَاة جمع مَرَاقٍ: سیڑھی کا پایہ، ڈنڈا۔ المِرْقَاة جمع مَرَاقٍ: سیڑھی کا پایہ، ڈنڈا، بوجھ اٹھانے والی ایک کل، لفٹ۔ اسے مِصْعَد بھی کہا جاتا ہے۔ المُرْتَقَى: چڑھنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: لقد ارتقيتَ مُرْتَقًى صَعْبًا: تو ایک مشکل جگہ چڑھ گیا ہے۔ مكانٌ صعبُ المُرْتَقَى: وہ جگہ جس پر چڑھنا دشوار ہو۔

۲۔ رَقَى ـِ رَقْيًا و رُقِيًّا و رُقْيَةً ہُ و عليه: کسی کو نفع یا ضرر رسانی کے لئے ٹوٹکا یا منتر کرنا۔ اِسْتَرْقَى ہُ: سے منتر یا جادو کرنے کو کہنا۔ — له: کسی کیلئے منتر،

ٹوٹکے یا جادو کرنے والے کو طلب کرنا، تعویذ گنڈے کرنے والے کو تلاش کرنا۔ الرُّقْيَة جمع رُقًى و رُقْيَات و رُقَيَات: منتر، افسوں، تعویذ۔ الراقی (فا) جمع رُقَاة و راقُون مونث راقِيَة جمع رَوَاقٍ: منتر کرنے والا، تعویذ گنڈے کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ راقِيَةٌ: یہاں تاء مبالغہ کی ہے، تانیث کی نہیں معنی تعویذ گنڈے یا منتر کرنے والا مرد۔ الرَّقَّاء: جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے میں بڑا ماہر۔

ن رقِيَ -رَقْيًا و رُقِيًّا في/الی: پر چڑھنا، تک چڑھ کر جانا۔ ـــ: عہدہ میں ترقی پانا، آگے بڑھنا۔ ـــ الی: (فلاں زمانہ) کا ہونا۔ رقِيَ بہ: کو اوپر لے جانا، کو ترقی دینا، بڑھانا، کی جرأت دلانا۔ رقَی -رُقْيَةً ہ من: پر کسی چیز کے خلاف جادو کرنا، منتر کرنا، افسوں کرنا۔ رقّی: چڑھنے کا باعث ہونا۔ ـــ ہ: کو ترقی دینا۔ ـــ ہ: کو آگے بڑھانا، کو تقویت پہنچانا، کے لئے کام کرنا، کی خدمت کرنا، تائید کرنا، کو اونچا کرنا، بلند کرنا۔ ترَقّی: چڑھنا، آگے بڑھنا، ترقی کرنا، اونچا ہونا، ابھرنا۔ اِرْتقَی: چڑھنا، اونچا ہونا۔ ـــ ہ: پر چڑھنا۔ ـــ العرش: تخت نشین ہونا، سریر آرائے سلطنت ہونا۔ ـــ ہ: پر سوار ہونا۔ ـــ العربة: گاڑی میں سوار ہونا۔ ـــ الی منصب: کسی منصب یا عہدہ میں ترقی کر جانا۔ ـــ الی: کی تعداد تک بڑھنا۔ ـــ: آگے بڑھنا، ابھرنا، اوپر کی طرف رجحان ظاہر کرنا، اوپر کی طرف ترقی کرنا۔ ـــ الی: (کسی زمانہ) کا ہونا۔ رُقْيَة جمع رُقًى: جادو، منتر، افسوں، ٹونا، ٹوٹکا، تعویذ، گنڈا۔ رقّاء: جادوگر، ساحر، فسوں گر۔ اَرْقَی: زیادہ اونچا، برتر، زیادہ ترقی یافتہ۔ مِرْقَاة جمع مَرَاقٍ: سیڑھیاں، زینہ، سیڑھی کا پایہ، قدمچہ، سیڑھی، لفٹ، بوجھ وغیرہ اٹھانے یا اوپر لیجانے والی کل۔ تَرْقِيَة: اونچا کرنا، بلند کرنا جمع تَرقِيَات: کسی منصب یا عہدہ پر ترقی، سربلندی، عروج، رفعت، بلندی، صعود، سرفرازی، ترقی، حوصلہ افزائی، ہمت افزائی، اعانت، امداد، آگے بڑھانا، برتری، توسیع، پھیلاؤ، اضافہ، بالیدگی، ترقی یافتہ حالت، بہتری۔ تَرَقٍّ جمع تَرَقِّيَات: چڑھائی، بلندی، چڑھنا، بلند ہونا، اوپر جانا، صعود، عروج، پیش قدمی، سرفرازی، اضافہ، ترقی، ارتقاء، نشو و نما، ترقی پذیر بہتر صورت۔ اِرْتِقَاء: چڑھنا، سوار ہونا، بلندی، چڑھاؤ، صعود، عروج، ترقی، ارتفاع، ارتقاء، نشو و نما، ترقی پذیر بہتر صورت۔ ارتقاءُ العرش: تخت نشینی۔ راقٍ: چڑھنے والا، سر ابھارنے والا، بلند، عالی، اعلی عہدہ دار، برتر، اونچے درجہ کا، بلند طبقے کا، اعلی معیار کا، تعلیم یافتہ، شائستہ، ترقی یافتہ۔ الطبقةُ الراقِيَةُ: بالائی طبقہ۔ راقٍ جمع رُقَاة: جادوگر، افسوں گر، ساحر، سیانا۔ مُرْتَقٍ: اونچا، بلند، برتر، ترقی یافتہ (خصوصاً شعوری طور)۔ مُرْتَقًى: ترقی، بلندی، ارتفاع، چڑھاؤ، عروج، اٹھان، ترقی، افزونی۔

رك: ۱۔ رَكَّ -رَكًّا و رِكَّةً و رَكَاكَةً: کمزور ہونا، پتلا ہونا۔ کہتے ہیں: اقطعہ من حیث رَكَّ: اسے وہاں سے کاٹو جہاں کمزور اور پتلا ہو۔ ـــ الرجلُ: کم علم یا کم عقل ہونا۔ رَكَّكَ و اَرَكَّ السحابُ: بادل کا تھوڑی اور ہلکی بارش برسانا۔ رُكِّكَ و اُرِكَّ ت الارضُ: زمین کا تھوڑی اور ہلکی بارش سے سیراب ہونا۔ اِرْتَكَّ: کانپنا۔ ـــ في الامر: کسی امر میں شک کرنا۔ اِسْتَرَكَّ ہ: کو کمزور پانا یا سمجھنا۔ الرَّكّ جمع رِكَاك و اَرْكَاك و الرَّكَّة و الرَّكِيكَة: ہلکی بارش، ننھی بوندوں کی بارش۔ الرِّكّ جمع رِكَاك و اَرْكَاك: ہلکی بارش، کمزور۔ اَرْضٌ رِكٌّ: زمین جہاں تھوڑی بارش ہوئی ہو۔ الرُّكَاك و الاَرَكّ: عقل و رائے کی کمزوری والا۔ الرَّكِيك جمع رِكَاك و رَكَكَة: عقل و رائے میں کمزور، ڈھیلا ڈھالا، کم ہمت۔ ـــ من الكلام: پھسپھسا کلام۔ رجلٌ رَكِيكُ العلم: کم علم مرد۔ ثوبٌ رَكِيكُ النسج: چھدری بناوٹ کا کپڑا۔ الرُّكَاكَة جمع رِكَاك: بمعنی الرُّكَاك۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ رُكَاكَةٌ و امراۃٌ رُكَاكَةٌ: عقل اور رائے میں کمزور مرد اور عورت۔ الرُّكُوكَة: کمزوری۔

۲۔ رَكَّ -رَكًّا الشيءَ: چیز کے ایک حصہ کو دوسرے پر چننا۔ کہا جاتا ہے: رَكَّ الأمرَ في عُنُقِهِ: اس نے کام اس کے گلے ڈال دیا۔ ـــ الشيءَ بیدہ: چیز کو ہاتھ سے دبا کر اس کا حجم معلوم کرنا۔ الرَّكَّة (ب): ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے پتھر۔

۳۔ اَرَكَّ الحقُّ فلاناً: پر حق کا غالب ہونا۔

۴۔ رَكْرَكَ رَكْرَكَةً الشيءُ: چیز کا کمزور ہونا۔ کہا جاتا ہے: بہ رَكْرَكَةٌ: اس کی ہر چیز میں کمزوری ہے۔ ـــ الرجلُ: بزدل ہونا۔

ن رَكَّ -رَكًّا و رِكَّةً و رَكَاكَةً: کمزور ہونا، ناتواں ہونا، حقیر ہونا، ناکافی ہونا، کم ہونا، قلیل ہونا، کم مقدار میں ہونا۔ ـــ -رَكًّا: رَكَّ الشيءَ في عُنُقِهِ: پر بھاری ذمہ داری ڈالنا، پر کوئی چیز ٹھونسنا۔ رِكَّة: کمزوری، ناتوانی، ضعف۔ رَكِيك جمع رِكَاك و رَكَكَة: کمزور، ناتواں، ہلکا، بے رنگ، روکھا پھیکا، بے لطف، پھیکا (جیسے پھیکا طرز بیان)، حقیر، ناکافی، کم، قابل افسوس۔ رُكَاك: کمزور، ناتواں۔ رَكَاكَة: کمزوری، ناتوانی، عاجزی، کوتاہی، کمی، کافی نہ ہونا، بے رنگی، پھیکا پن، بے رونقی (جیسے انداز، طرز وغیرہ کی)۔ رُكَّة: تکلا، سلائی دار پونی۔ طِبُّ الرُّكَّة: عورتوں کی طرف سے بیماری کا عامیانہ علاج بذریعہ تعویذ، گنڈے، ٹونے، ٹوٹکے وغیرہ۔

رکب: ۱۔ رَكِبَ -رُكُوبًا و مَرْكَبًا الدابةَ و علی الدابة: جانور پر سوار ہونا۔ ـــ البحرَ: سمندر میں سفر کرنا۔ ـــ الطريقَ: راستہ پر چلنا۔ ـــ اثرَہُ: کا پیچھا کرنا۔ ـــ ہُ الدَّيْنُ: مقروض ہونا۔ رَكَّبَ ہُ الفرسَ: کو گھوڑے پر سوار کرنا۔ ـــ الشيءَ: ایک کو دوسری پر رکھنا۔ اَرْكَبَ ہ: کو سواری دینا۔ ـــ المُهْرُ: بچھیرے کا سواری دینے کے قابل ہونا۔ تَرَكَّبَ: سوار ہونا، ترکیب پانا۔ تَرَاكَبَ الامورُ: معاملہ کا تہ بہ تہ ہونا۔ اِرْتَكَبَ ہُ: پر سوار ہونا۔ ـــ الدَّيْنَ: قرض زیادہ لینا۔ الرَّكْب جمع اَرْكُب و رُكُوب: اونٹوں یا گھوڑوں کے سوار۔ یہ اسم جمع ہے اور بعض کے نزدیک جمع ہے۔ الرِّكْبَة: جانور پر سواری، سوار ہونے کی ایک قسم۔ کہا جاتا ہے: هو حَسَنُ الرِّكْبَة: وہ ایک اچھا سوار ہے۔ الرِّكَاب جمع رُكُب: سوار کے پیر رکھنے کی جگہ۔ ـــ جمع رُكُب و رَكَائِب و رِكَابَات: سواری کے اونٹ واحد: راحِلة۔ رِكَابُ السحاب: ہوائیں۔ الراكِب (فا) جمع رُكَّاب و رُكْبَان و رُكُوب و رِكَبَة و رَكْب و رَكَبَة: سوار۔ الراكِبَة جمع رَوَاكِب: الراكب کا مونث۔ ـــ و الراكُوب و الراكُوبَة: کھجور کے درخت کی نئی شاخ جو اس کے سب سے اوپر کے حصہ سے لٹکتی ہو اور زمین تک نہ پہنچتی ہو۔ الرَّكِيب جمع رُكُب: دو سواروں میں سے پچھلا سوار، سوار، جڑی ہوئی چیز۔ الرَّكُوب: بہت سوار ہونے والا۔ ـــ و الرَّكُوبَة جمع رَكَائِب: سواری کا اونٹ، سواری۔ طَرِيقٌ رَكُوبٌ: بہت چلتا ہوا راستہ۔ الرَّكَّاب مونث رَكَّابَة: بہت سوار ہونے والا۔ المَرْكَب (مص): سواری، تری کی ہو یا خشکی کی (جیسے جہاز، کشتی، اونٹ گھوڑا وغیرہ)۔ المُرَكَّب: اصل۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ کریمُ المُرَكَّب: فلاں شخص شریف الاصل ہے۔ الجهلُ المُرَكَّب: نہ جانتے ہوئے اپنے کو جاننے والا سمجھنا۔ المَرْكُوب (مفع)، جمع مَرَاكِيب: سواری (گھوڑا وغیرہ)۔ المَرْكَبَات واحد مَرْكَبَة: مختلف قسم کی گاڑیاں

جنہیں گھوڑے خچر وغیرہ کھینچتے ہوں یا بھاپ یا بجلی وغیرہ کی طاقت سے چلنے والی گاڑیاں۔

۳۔ رَکِبَ ۔ رُکُوبًا و مَرکَبًا رَاسَهٗ: بے سوچے لاپروائی سے کسی کام کو کر گزرنا۔ ـــ ھواہ: خواہش کا تابع ہونا۔ ـــ الذنبَ: گناہ کا مرتکب ہونا۔ ـــ الخطرَ: اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا۔ رَکِبَ فلانٌ ذقنه: منہ کے بل زمین پر گر پڑنا۔ اِرتَکَبَ الامرَ: کسی معاملہ یا کام میں بے دھڑک گھس پڑنا۔ ـــ الذنبَ: گناہ کرنا، جرم کرنا۔

۳۔ رَکِبَ ۔ رَکَبًا: بڑے زانو والا ہونا۔ ـــ ہٗ: کے گھٹنے پر مارنا۔ رُکِبَ: گھٹنے میں درد والا ہونا۔ الرُکبَة جمع رُکَب و رُکُبات و رُکَبات (ع ا): گھٹنا، زانو۔ کہا جاتا ہے: ھذا امرٌ اصطکت فیه الرُکَب: یہ ایسا معاملہ ہے جس میں خوف کی شدت سے گھٹنے کانپنے لگے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ الأرکَب: بڑے زانو والا۔ بعیرٌ ارکَب: اونٹ جس کا ایک گھٹنا دوسرے سے بڑا ہو۔

۴۔ رُکبَةُ الدجاجة و رُکبَةُ الرامی (فلک): دو ستاروں کے نام۔ الرَکِیب جمع رُکُب: کھیتی۔ نَخلٌ رَکِیبٌ: نہر وغیرہ کے کنارے پر کھجوروں کی قطار۔

رَکِبَ ۔ رَکوبًا ہ: کسی جانور پر سوار ہونا، چڑھنا، کسی گاڑی، ٹرین، آٹوموبائل یا جہاز و کشتی وغیرہ میں جانا، سفر کرنا، کسی گاڑی، سائیکل پر چڑھنا، سوار ہونا، سواری کرنا، کسی گاڑی میں بیٹھنا، سائیکل پر چڑھنا، ٹرین، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ پر سوار ہونا۔ ـــ ہ ب: کا سے پیچھا کرنا، کے ساتھ کسی کے پیچھے ہونا۔ ـــ ہ: میں مشغول ہونا، کوئی نیا کام شروع کرنا، کوئی گناہ جرم کرنا یا گناہ یا جرم کا ارتکاب کرنا۔ ـــ ہ: میں ماہر ہونا، استاد ہونا۔ رکب البحرَ: بذریعہ سمندر سفر کرنا۔ ـــ الحیاة: زندگی پر قابو پانا۔ رکب الخطرَ: کوئی خطرناک کام شروع کرنا۔ رکب خیولَهٗ الحربیة: برتر انداز سے کام کرنا۔ رکب ذَنَبَ الریح: کے ساتھ ساتھ ہوا کی طرح تیزی سے گذرنا۔ رَکِبَ رَاسَهٗ: اپنی سمجھ کے مطابق کام کرنا، بے سمجھے بوجھے کوئی کام کرنا، بے دھڑک کوئی کام کرنا، من کی موج پر چلنا۔ رکب السیارةَ: کار کے ذریعے جانا، کار پر جانا، کسی آٹوموبائل پر سفر کرنا۔ رکب الشطط: زیادتیاں کرنا، بے اعتدالیاں کرنا، بہت دور چلا جانا۔ رکب الطیارةَ: پرواز کرنا، ہوائی جہاز سے جانا۔ رکب مَتنَ العُنف: تشدد کرنا۔ رکب مَرکَبَ الخَطَل: احمقانہ غلطی کرنا، حماقت کا ارتکاب کرنا، عاقبت نااندیشی کے رویہ کا آغاز کرنا، غیر ذمہ دارانہ کام کرنا۔ رکب مَطِیَّةَ الاِخفاق: غلط گھوڑے پر شرط لگانا، ناکام ہونا، خسارہ میں جانا۔ رکب الاھوال: دہشتوں کو للکارنا۔ رکب الھواءَ: پرواز کرنا، ہوائی جہاز سے سفر کرنا۔ رکب ھواہ: اپنی خواہش پر چلنا۔ رَکَّبَ ہ: کو سوار کرنا۔ ـــ ہ علی: کو پر رکھنا، کو پر چڑھانا، باندھنا۔ ـــ ہ فی: کو میں فٹ کرنا، جڑنا، ڈالنا، بٹھانا، جمانا، لگانا۔ ـــ ہ: کو مشین وغیرہ کا مستقل جز بنانا، کے پرزے جوڑنا، کے پرزے یکجا کرکے پوری کل بنانا، مشین بنانا، کو نصب کرنا، بجلی کی لائن وغیرہ بچھانا، کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، باہم فٹ کرنا، کو بنانا، تیار کرنا (بہت سے اجزا ترکیبی سے)، کو تعمیر کرنا، بنانا (کوئی ٹیکنیکل آلات تعمیر کرنا یا بنانا)۔ اَرکَبَ ہ: کو سوار کرنا، چڑھانا۔ ارکبه رأسَهٗ و ھواہٗ: کو جو دل آئے کرنے دینا، کو من مانی کرنے دینا۔ تَرَکَّبَ من: سے مرکب ہونا، بننا، تیار کیا جانا۔ تَراکَبَ: ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہونا۔ اِرتَکَبَ ہ: (گناہ، جرم) کرنا، کچھ کام کرنا، کو انجام دینا، جاری رکھنا۔ ارتکب شَطَطًا: کسی چیز میں مبالغہ سے کام لینا، معقول حد سے تجاوز کرنا۔ رَکْب: سوار، شہسوار، سواروں کا پرا، کاروان، قافلہ، سفری جماعت، نوکر چاکر، خدم و حشم، حفاظتی دستہ، بدرقہ، جلوس، لوگوں کا گروہ (سفر پر جانے والا یا سفر سے آیا ہوا)۔ رُکبَة جمع رُکَب و رُکَبات: گھٹنا۔ ابوُ الرُکَب: جوڑوں میں بہت درد والا بخار، گھٹنوں کا درد۔ رِکاب جمع رُکُب: رکاب زین کے دونوں طرف لگی ہوئی سوار کے پاؤں رکھنے کی جگہ۔ (جمع رکابات و رُکُب و رکائب): سواری کا اونٹ، سواری کا جانور، سواری، گھوڑا۔ حَلَّ رِکابَهٗ بأرضِنا: وہ ہماری زمین پر آیا ہے۔ ھُوَ فی رِکابِهٖ: وہ اس کا وفادار حامی یا پیرو ہے، وہ اس کا قریبی پیروکار ہے۔ سارَ فی رِکابِهٖ: کے ساتھ ساتھ رہنا، کسی کا اندھوں کی طرح تابع فرمان ہونا۔ رَکُوب: سواری، گھوڑا، سواری کا جانور۔ رَکُوبَة جمع رکائب: سواری، گھوڑا، سواری کی اونٹنی۔ رُکُوب: (گھوڑے یا اونٹ کی پیٹھ پر) سوار ہونا، سواری کرنا، (کسی گاڑی وغیرہ میں، بذریعہ بحری جہاز، ہوائی جہاز وغیرہ) سفر کرنا، بائسکل، گھوڑوں وغیرہ پر) چڑھنا، سوار ہونا (ٹرین، بحری جہاز وغیرہ) پر جانا، سفر کرنا۔ رُکُوبُ البحر: بحری جہاز چلانا۔ رُکُوبُ الھواء: اڑنا، پرواز کرنا، ہوابازی۔ رَکَّاب: اکثر سواری کرنے والا، پیشہ ور شہسوار، یا سوار، جاکی، جوکی (jockey)۔ رُکبان: حفاظتی دستہ، جلو، خدم و حشم۔ ذِکرُہٗ سارَ بِهِ الرُکبانُ: اس کی شدت دور دور تک پھیل گئی ہے۔ مَرکَب جمع مَراکِب: بحری جہاز، کشتی۔ مرکبٌ بُخارِیٌّ: دخانی کشتی، جہاز۔ مرکبٌ حربیّ: جنگی جہاز۔ مرکبٌ دوریّ: گشتی کشتی۔ مرکب شِراعی: بادبانی کشتی، جہاز۔ مرکبُ الصَّید: ماہی گیر جہاز، مچھلی پکڑنے کی کشتی۔ مرکبُ النَقل: مال بردار جہاز۔ مَرکَبَة جمع مَرکَبات: گاڑی، گھوڑا گاڑی، ریل گاڑی (کا ڈبہ) بگھی، ٹیکسی، کرائے کی کار۔ مَراکِبی جمع مَراکِبیَة: کشتی والا، کشتی بان، مانجھی، گھاٹ ملاح۔ تَرکِیب جمع ترکیبات و تَراکِیب: لگانا، جوڑنا، رکھنا، بٹھانا، جڑنا، ڈالنا، شامل کرنا، بنانا، تعمیر کرنا، چڑھنا، پرزے جوڑنا، پرزے یکجا کرکے پوری کل بنانا، تنصیب (جیسے ٹیلیفون ایکسٹینشن کی) بنانا، تیار کرنا (مختلف اجزاء سے) تعمیر، عمارت (ٹیکنیکل)، ڈھانچ، ڈھانچہ، ساخت، بناوٹ، جسم کی ساخت، جسم (جمع تراکیب) نکتہ، ترکیب کہاوت، پر معنی مقولہ، محاورہ، تعبیر، عبارت، کلام۔ تَرکِیبی: تاویلی، تعبیری، اصلاحی، ترکیبی۔ اِرتِکاب: (گناہ یا جرم کا) ارتکاب، سرزد ہونا۔ راکِب: سوار، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار، (کسی گاڑی میں) سفر کرنے والا یا گاڑی میں سوار و جمع رُکّاب و رُکبان: سوار، گھوڑے پر سوار، شہسوار، (جمع رُکّاب): مسافر، (کسی گاڑی وغیرہ میں) سوار (یا بیٹھا ہوا)۔ راکبُ دَرّاجَة: سائیکل سوار، سائیکل والا۔ مَرکُوب جمع مَراکِیب: سواری کا جانور، سواری، گھوڑا، سرخ چمڑے کے جوتے۔ مُرَکَّبات: مشتمل باجزاء، لازمی اجزاء، عناصر، اجزائے ترکیبی۔ مُرَکَّب علی: پر بٹھایا ہوا، لگایا ہوا، چڑھایا ہوا، باندھا ہوا، جوڑا ہوا۔ ـــ فی: میں داخل یا شامل کیا ہوا، فٹ کیا ہوا، جڑا ہوا، رکھا ہوا، دھرا ہوا، چسپاں کیا ہوا۔ ـــ: ممتاز اضافہ، پرزے جوڑا ہوا۔ ـــ من: پر مشتمل، سے بنا ہوا۔ ـــ: مرکب، ملا جلا، پیچیدہ الجھا ہوا، بندھا ہوا، بقیہ۔ ـــ (جمع مُرَکَّبات): مرکب، اجزائے ترکیبی، ملا جلا، پیچیدہ، کھانے یا لگانے کی دواء، دوا والا ہونا۔ ربح مُرَکَّب: سود مرکب، سود در سود۔ مُرَکَّبٌ کیمیائی: کیمیاوی مرکب۔ مُرَکَّبُ نقصٍ: احساس کمتری، اپنی غریبی نالائقی یا کمزوری کا احساس۔ مُرتَکِب: (کسی جرم کا) ارتکاب کرنے والا، مرتکب۔

رکح: ۱۔ رَکَحَ ـُ رُکُحًا علی الشیء و الیہ: کا سہارا لینا، پرٹیک لگانا۔ ـــ رُکُوحًا الیہ: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔ اَرْکَحَ علیہ: کا سہارا لینا۔ ـــ ہٗ الیہ: کی پرٹیک لگانا۔ کہا جاتا ہے: ارکحتُ الیہ ظھری: میں نے اس پر اپنی پیٹھ ٹکائی۔ اِرْتَکَحَ علی الشیء و الیہ: کا سہارا لینا، پرٹیک لگانا۔ الرُکح جمع اَرْکاح و رُکُوح: بنیاد، پہاڑ کی نکلی ہوئی نوک، پہاڑ کا پہلو۔

۲۔ تَرَکَّحَ فی الدار: گھر میں فراخی وکشادگی کرنا۔ ـ فی المعیشۃ: وسعت معیشت کیلئے تصرف کرنا۔ ـــ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا، ٹھہرنا۔ الرُکح جمع اَرْکاح و رُکُوح: گھر کا صحن۔ الأَرْکاح: راہبوں کے گھر۔ الرُکحۃ جمع رُکَح: گھر کا صحن۔

۳۔ الرَکَحاء: سخت اٹھی ہوئی جگہ۔

رکد: رَکَدَ ـُ رُکُودًا الماءُ او الریحُ: پانی یا ہوا کا رکنا، ٹھہر جانا۔ ـ المیزانُ: ترازو کا برابر ہونا۔ ـ عصیرُ العنب: انگور کے نچوڑ کا جوش ٹھنڈا ہونا۔ ـ العَکَرُ و الثُفل: تلچھٹ کا برتن کے نچلے حصہ میں بیٹھ جانا۔ ـــ ت الشمسُ: سورج کا سر پر آ کر ٹھہرنا معلوم ہونا۔ کہا جاتا ہے: رکدت ریحھم: ان کی حکومت جاتی رہی۔ الراکِد (فا): اپنی جگہ ٹھہرا ہوا، بے حرکت۔ الرَکُود: بھرا ہوا پیالہ، ہمیشہ دودھ دینے والی اونٹنی۔ المَراکِد: ٹھہرنے کی جگہیں۔

○ رَکَدَ ـُ رُکُودًا: بے حرکت ہونا، بند یا بند پڑا ہوا ہونا، ساکن ہونا۔ رُکُود: توقف، معطلی، موقوفی، رکنا، ٹھہراؤ، ساکن ہونا، رک جانا، جمود، جماؤ، رکاؤ، سکون، سستی، کاہلی، سکوت، سناٹا، گہری خاموشی۔ راکِد: ست، بند، بند پڑا ہوا، بے حرکت، ساکن، جامد، مندا، سرد، مٹھا۔

رکز: ۱۔ رَکَزَ ـُ رَکْزًا الرمحَ و نحوہ: نیزہ وغیرہ کو زمین میں گاڑنا، دفن کرنا، قائم کرنا۔ رَکَّزَ الرمحَ و نحوہ: بمعنی رَکَزَہ۔ اَرْکَزَ المعدنُ: کان کا دھات والی ہونا۔ ـ الرجلُ: دھات پانا۔ تَمَرْکَزَ فی المکان: کسی جگہ کو اپنا مرکز بنانا۔ اِرْتَکَزَ الشیءُ: چیز کا اپنی جگہ جمنا۔ ـــ علی العصا: لاٹھی کا سہارا لینا، لاٹھی پرٹیک لگانا۔ الراکِز: باوقار، ٹھنڈے مزاج والا (عام زبان میں)۔ الرِکْز: دانا، فیاض آدمی۔ الرِکْزۃ: ہوشیاری، حکمت، دانائی، ثبات عقل۔ (کہا جاتا ہے: کلّمتُہ فما رأیتُ لہ رِکْزَۃً: میں نے اس سے گفتگو کی تو اس کو ٹھوس عقل کا نہیں پایا) جڑ سے اکھڑا ہوا کھجور کا درخت۔ الرِکاز واحد رِکْزۃ جمع اَرْکِزۃ و رِکْزان: زمین کے اندر قدرتی پیداوار پر مشتمل دفن شدہ دھاتیں۔ الرَکیزۃ جمع رَکائز: زمین کے اندر مدفون جواہر۔ ـ عند العامۃ: لکڑی کا پتلا ستون جس سے جھونپڑے کو سہارا دیا گیا ہو۔ الرَکائز (ب): موٹے ستون جو چھوٹی مسجدوں میں اس لئے بنائے جاتے ہیں کہ پتھروں سے بنی چھت کو سہارا ملے۔ المَرْکَز جمع مَراکِز: دائرے کے بیچ کا حصہ، کسی آدمی یا والی کی رہائش گاہ۔ مَراکِزُ الاَسْنان: دانت اگنے کی جگہیں۔

۲۔ رَکَزَ ـ رَکْزًا العِرقُ: رگ کا پھڑکنا۔ اِرْتَکَزَ العِرقُ: رگ کا پھڑکنا۔

۳۔ الرِکْز: دھیمی آواز، آہٹ۔

○ رَکَزَ ـُ رَکْزًا ہ: (کوئی چیز جیسے کھمبے) کو زمین میں گاڑنا، لگانا، ٹھونسنا، کو مضبوطی سے لگانا، جڑنا، جمانا، گاڑنا۔ رَکَّزَ ہ: (کھمبا وغیرہ) کو زمین میں لگانا، ٹھونسنا، گاڑنا، جمانا، کو خاص طریقہ یا مقام میں لگانا یا ترتیب دینا، کو مضبوطی سے لگانا، جڑنا، جمانا، گاڑنا، کو اپنانا، کو اختیار کرنا، مستحکم کرنا۔ ـــ ہ فی: کو پر مرتکز کرنا، (ایک نقطے) پر جمع کرنا، مرکوز کرنا، کام کو پوری توجہ سے کرنا، اپنی توجہ کو پر مرکوز کرنا۔ تَرَکَّزَ: مرتکز ہونا، مرکوز ہونا، ایک نقطہ پر جمع کرنا۔ تَرکیز: تیار (ریس میں حصہ لینے والوں کو دوڑنے کا اشارہ کرنے والے کا حکم)۔ اِرْتَکَزَ: لگنا۔ ـ فی: میں ٹھہرنا، مستقل طور پر رہنے لگنا، آباد ہونا۔ ـــ علی/ الی: پر جھکنا، پر اپنے بوجھ کو سہارا دینا۔ ـــ علی: پر جڑا ہوا ہونا، چڑھا ہوا ہونا، پر مبنی ہونا، ٹیک لگانا۔ ـــ فی: پر توجہ مرکوز کرنا، صرف اسی کو کرنا، کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔ رِکْز: آواز۔ رَکْزۃ: مختصر وقفہ، آرام، وقفہ۔ رِکاز جمع اَرْکِزۃ و رِکْزان: قیمتی معدنیات، زمین کے مدفون خزانے۔ رَکیزۃ جمع رَکائز: خزانہ، تائید، حمایت، سہارا، لوہے کے پتر، لکڑی کی پتلی تختیاں، کنارا، ساحل، سلاخ، میخ، کھمبا، ستون، شہتیر، ٹیک، آڑا، لاٹ، بند، پشتہ، ڈھیر، انبار، تکیہ۔ مَرْکَز جمع مَراکِز: پاؤں رکھنے کی جگہ، اڈا، مقام، مرکز، مستقر، وہ جگہ جہاں کسی کو تعینات کیا گیا ہو، چوکی، تھانہ، دفتر، شاخ کا دفتر branch office، جائے [illegible]ع، منظر، (کا) موقع، (کی) جگہ، مرکز ہیڈ کوارٹر، صدر مقام، پوزیشن (عسکری)، بڑا دفتر، مرکزی [illegible] (ٹیلیفون)، دائرہ کا مرکز، مرکز نگاہ، مرکز شعاع، ماسکہ۔ مرکز: انتظامی ضلع۔ (مدیریۃ کا) سب ڈویژن، مقام، درجہ یا منصب حالت، صورت حال، عہدہ، (سماجی، مالی، سرکاری) حیثیت، مسلمہ حیثیت، (کسی ملک کا) مقام یا طاقت۔ مرکز اساسی: بنیاد، نقطۂ آغاز۔ مرکز البولیس: پولس اسٹیشن، تھانہ۔ مَراکِزُ حَیَوِیۃ: قوت حیات کے مرکز۔ مَرْکَزُ الادارۃ: بڑا دفتر، مرکزی دفتر، صدر مقام، ہیڈ کوارٹر۔ مرکز الدّاء: بیماری والی جگہ۔ مرکزُ الاذاعۃ: براڈ کاسٹنگ اسٹیشن۔ مرکزٌ رئیسی: بڑا دفتر، صدر دفتر، ہیڈ کوارٹر۔ مرکز الرِیاسۃ: سنٹرل کمانڈ پوسٹ۔ مرکز ریاسۃ الجیش: آرمی کی سپریم کمانڈ۔ مرکز رعایۃ الطفل: بچوں کے لئے مرکز صحت۔ مرکز السِکّۃ الحدیدۃ: ریلوے جنکشن۔ مرکزٌ نیابی: پارلیمانی نشست، اختیارات تفویض کرنے والا فرمان۔ مرکز الشُرطۃ: پولس اسٹیشن (تھانہ)۔ مرکز التَوْلید: پاور ہاؤس، بجلی گھر۔ مَرْکَزی: مرکزی، ضلعی۔ لامرکزی: مرکز گریز۔ مقامی (انتظامیہ)۔ مَرْکَزِیۃ: مرکزیت، مرکزی نظام، مرکزی حیثیت یا صورت حال لامرکزیۃ: مرکزیت کو توڑ دینا، مقامی اقتدار کو قائم کرنا۔ جِھازُ الترکیز: مستحکم یا قائم رکھنے کا آلہ (stabilizer)۔ تَراکُز: ہم مرکزیت۔ اِرتکاز: سہارا، تائید۔ مُرَکَّز: مرکوز، مرکز میں لایا ہوا، کثیف جما ہوا، مرتکز، مختصر۔ مُتَراکِز: ہم مرکز۔

رکس: ۱۔ رَکَسَ ـُ رَکْسًا الشیءَ: کسی چیز کے اگلے حصہ کو پچھلے حصہ پر الٹ دینا۔ اَرْکَسَ ہٗ: کو اوندھا کرنا۔ ـــ الشیءَ: کو اس کی پہلی حالت پر لوٹانا۔ ـ الثوبَ فی الصبغ: کپڑے کو رنگ میں دوبارہ ڈبونا۔ اِرْتَکَسَ: اوندھا ہونا، سے نجات پا کر پھر اس میں پڑنا۔ الرِکْس: گرنے کے بعد مرمت کی ہوئی عمارت، گندگی۔ ـــ من الناس: لوگوں کی جماعت۔ الرَکیس: اوندھا، کمزور اوندھا۔

۲۔ رَکَسَ ـ رَکْسًا البعیرَ: اونٹ کے رکاس باندھنا۔ الرِکاس: اونٹ کی نکیل میں ڈال کر گھٹنے سے باندھی جانے والی رسی۔ اِرْتَکَسَ فی مکانِہ: اپنی جگہ اقامت کرنا، ٹھہرنا۔ الرِکْس: پل۔ الرَکاسۃ و الرِکاسۃ: زمین میں گاڑی ہوئی میخ، کیل وغیرہ۔

۳۔ اَرْکَسَتِ الجاریۃُ: لڑکی کے پستان ابھرنا، ظاہر ہونا۔

۴۔ تَرَاکَسَ الشعرُ: بالوں کا تہ بہ تہ ہونا۔ اِرْتَکَسَ: بھیڑ کرنا۔

○ اِرْتَکَسَ: (کو) سخت دھچکا لگنا، پیچھے پھینکا جانا، ختم ہونے کے قریب ہونا، بگڑ جانا (اخلاقی لحاظ سے گر جانا)، خوار ہونا، چھوٹا سارہ جانا۔

رکض: ا۔ رَکَضَ ـ رَکْضًا: دوڑنا، پاؤں ہلانا۔ ۔ ہٗ: کو ہٹانا۔ ۔ الارضَ و الثوبَ: زمین یا کپڑے کو پاؤں سے ملنا۔ ۔ الفرسَ بِرِجْلَیْہِ: گھوڑے کو دوڑانے کے لئے ایڑ لگانا۔ ۔ الطائرُ بِجناحَیْہِ: پرندے کا بازو پھڑ پھڑانا۔ ۔ منہ: سے تیزی سے بھاگ جانا۔ ۔ ت النجومُ: ستاروں کا چلنا۔ ۔ القوسَ تیراندازی کرنا۔ رُکِضَ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑایا جانا۔ صفت: مَرْکُوض۔ رَاکَضَ مُرَاکَضَۃً ہٗ: سے گھڑ دوڑ میں مقابلہ کرنا۔ تَرَاکَضَ القومُ: ساتھ ساتھ دوڑنا۔ اِرْتَکَضَ خیلَھم الیہ: اپنے گھوڑوں کو کی طرف دوڑانا۔ ۔ القومُ فی المیدان: دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔ الرَّکْضَۃ: حرکت، دھکا۔ الرَّکُوض: تیز۔ المِرْکاض: بہت دوڑنے والا۔ قوسٌ مُرْکِضَۃٌ: کمان جس کے تیر تیزی سے لپکتے ہوں۔ المِرْکَضَۃ: گھوڑا جو دوڑتے ہوئے اپنی ٹانگوں سے زمین کولترے۔

۳۔ اِرْتَکَضَ: حرکت کرنا، بےقرار ہونا۔ ۔ الجنینُ: بچہ کا اپنی ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا۔ ۔ الرجلُ فی امرہ: اپنے معاملہ میں تصرف کرنا۔ المِرْکَضَ جمع مَرَاکِض: وہ چیز جس سے آگ سلگائی جائے۔ ۔ من القوس: کمان کا کنارا۔ مَرَاکِضُ الحوض: حوض کے کنارے جن سے پانی آکر ٹکرائے۔ المِرْکَضَۃ: کمان کا کنارا۔

○ رَکَضَ ـ رَکْضًا: دوڑنا، تیزی سے جانا، دوڑ میں مقابلہ کرنا، بھاگ جانا، (گھوڑے کا) سرپٹ دوڑنا۔ ۔ ہ: گھوڑے کو سرپٹ دوڑانا۔ رَاکَضَ ہ: کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرنا، کے ساتھ گھوڑا دوڑانا۔ تَرَاکَضَ: دوڑ میں مقابلہ کرنا، تیز دوڑنا۔ رَکَّاض: دوڑ میں مقابلہ کرنے والا، دوڑنے والا۔ رَکُوض: تیز دوڑنے والا، تیز (دوڑنے والا یا کسی کام کرنے میں)۔

رکع: رَکَعَ ـ رَکْعًا و رُکُوعًا: بدن خم کرنا، سر جھکانا۔ اسی سے صلوۃ میں رکوع ہے۔ ۔ اِلی اللّٰہ: اللہ تعالیٰ کے سامنے پست ہونا۔ ۔ الرجلُ: محتاج و بدحال ہونا، اوندھا ہونا، ٹھوکر کھانا۔ رَکَّعَ و اَرْکَعَ ہٗ: کو جھکانا، رکوع کرانا۔ الرَّاکِع (فا) جمع رَاکِعُون و رُکَّع و رُکُوع: سر جھکانے والا۔ الرَّکْعَۃ: ایک رکعت۔ ۔ و الرُّکْعَۃ: زمین کا گڑھا۔

○ رَکَعَ ـ رُکُوعًا: جسم کو جھکانا، (نماز میں) جھکنا، رکوع میں جانا، دوزانو ہونا، گھٹنوں پر جھکنا۔ رَکَّعَ و اَرْکَعَ ہ: کو دوزانو کرنا، گھٹنوں کے بل کھڑا کرنا، گھٹنوں پر جھکانا۔ رَکْعَۃ: رکعت۔ رَاکِع جمع رُکَّع: زمین کی طرف جھکنے والا۔

رکل: ا۔ رَکَلَ ـ رَکْلاً ہٗ: کو لات مارنا۔ کہا جاتا ہے: رَکَلَ الفرسَ: اس نے گھوڑے کو دواڑنے کے لئے ایڑ ماری۔ رَکَّلَ ہٗ: کو لات مارنا۔ ۔ ت الخیلُ الارضَ: گھوڑے کا زمین پر ٹاپ مارنا۔ رَاکَلَ صاحبَہٗ: ایک دوسرے کو لات مارنا۔ تَرَکَّلَ الحافرُ بالمِسْحاۃ و علیھا: کو پاؤں سے زمین میں دھنسانا۔ ۔ ت الارضُ: زمین کا جانوروں کے سموں سے لتاڑا یا روندا جانا۔ تَرَاکَلَ القومُ: ایک دوسرے کو لاتیں مارنا۔ الرَّکْلۃ: رکل کا اسم مرۃ، ایک دفعہ لات مارنا۔ المَرْکَل جمع مَرَاکِل: راستہ، جانور کو ایڑ لگانے کی جگہ۔ آپ کہتے ہیں: فرسٌ نَھْدُ المَراکِل: کشادہ پیٹ اور بڑی ایڑی لگانے کی جگہوں والا گھوڑا۔ المِرْکَل جمع مَرَاکِل: سوار کا پاؤں۔

۲۔ الرَّکْل (ن): گندنا۔ الرَّکْلَۃ: سبزی کا گٹھا۔ الرَّکَّال: گندنے بیچنے والا۔

○ رَکَلَ ـ رَکْلاً ہ/ہ: کو لات مارنا، ٹھوکر مارنا، (جانور کو) ایڑ لگانا۔ الرَّکْلۃ: لات، ٹھوکر، ایڑ۔

رکم: رَکَمَ ـ رَکْمًا الشیءَ: کا ڈھیر لگانا، تہ بہ تہ کرنا۔ تَرَاکَمَ و اِرْتَکَمَ الشیءُ: چیز کا ڈھیر لگنا۔ کہا جاتا ہے: تَرَاکَمَ لحمُ فلان: فلاں شخص موٹا ہوگیا۔ الرَّکَم: تہ بہ تہ بادل۔ الرُّکْمَۃ: کیچڑ کا ڈھیر۔ الرُّکَام: تہ بہ تہ بادل یا ریت وغیرہ۔ قطیعٌ رُکامٌ: بڑا ریوڑ۔ سحابٌ مرکومٌ: تہ بہ تہ بادل۔ ناقۃ مَرْکُومَۃ: فربہ اونٹنی۔ الرَّکِیمَۃ الذَّرِّیَّۃ: ایٹمی قوت کو پیدا کرتے رہنے والا آلہ۔ المِرْکَم (ف): سٹوریج بیٹری پیدا کرنے والا آلہ۔ مُرْتَکَمُ الطریق: شاہراہ۔

○ رَکَمَ ـ رَکْمًا ہ: کا ڈھیر لگانا، انبار لگانا، کو جمع کرنا، فراہم کرنا، تعداد یا مقدار میں بڑھانا۔ تَرَاکَمَ: کا ڈھیر لگنا، انبار لگنا، بادلوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ اِرْتَکَمَ بمعنی تَرَاکَمَ۔ مَرْکَم جمع مَرَاکِم: سٹوریج بیٹری۔ تَرَاکُم: ڈھیر، انبار۔

رکن: ا۔ رَکَنَ ـ و رَکِنَ ـ رُکُونًا الیہ: کی طرف مائل ہونا، جھکنا، کو اپنا ہی گھر سمجھنا، پر بھروسہ کرنا۔ اَرْکَنَ اِلیہ: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ الرُّکْن جمع اَرْکان و اَرْکُن: جس سے قوت حاصل کی جائے، عزت، قوت و غلبہ۔ ۔ من الشیء: جزء، مضبوط پہلو۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ رُکْنٌ من اَرْکان قومہ: وہ اپنی قوم کے شرفاء میں سے ہے۔ رُکْنُ الرجل: آدمی کی قوم اور بنیاد۔ الأَرْکان: اربعہ عناصر: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ اَرکانُ الحَرْب: جنرل شاف، جنرل شاف کے جمع ہونے کی جگہ۔ الرَّکِین: ثابت قدم۔ ۔ من الجِبال: اونچے اطراف اور پہلوؤں والا پہاڑ۔ الأَرْکُون جمع اَرَاکِنَۃ: سربراہ، سردار، میجر، نمبردار۔

۲۔ رَکُنَ ـ رَکَانَۃً و رُکُونَۃً: باوقار ہونا، سنجیدہ ہونا۔ رَکَّنَ ہٗ: کو باوقار و سنجیدہ بنانا۔ تَرَکَّنَ: مضبوط ہونا، باوقار ہونا۔ الرَّکِین: سنجیدہ، باوقار۔

۳۔ الرُّکْن جمع اَرْکان و اَرْکُن: بڑا معاملہ۔ الرُّکْن (ح): چوہا، جنگلی چوہا۔ المِرْکَن جمع مَرَاکِن: ٹب، لگن۔

○ رَکَنَ ـ رُکُونًا و رَکِنَ ـ اِلی: پر جھکنا، ٹیک لگانا۔ ۔: خاموش ہونا یا ہوجانا۔ ۔ اِلی: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، کا دست نگر ہونا، کا متوسل ہونا، پر بھروسہ کرنا پڑنا۔ رکن اِلی الھدوٓ: خاموش رہنا۔ اَرْکَنَ اِلی: پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، کی طرف رجوع کرنا۔ یُرْکَنُ اِلَیْہِ: معتبر، قابل اعتماد، بھروسہ کے لائق، بھروسے کا، قابل اعتبار۔ اِرْتَکَنَ اِلی/علی: پر جھکنا، ٹیک لگانا، تکیہ کرنا۔ رُکْن جمع اَرْکان: سہارا، آسرا، کونہ، گوشہ، بنیاد، بنیادی عنصر، پہلا اصول۔ اَرْکان: شاف، بنیادی عناصر، خاص عناصر۔ ارکانُ الحرب: جنرل شاف۔ ارکانُ الجیش: جنرل شاف۔ رئیسُ اَرکانِ الجیش: چیف آف جنرل شاف۔ وَثِیقُ الأرکان: مضبوط کاٹھی کا، ہٹا کٹا، قوی ہیکل۔ ضَرْبَۃٌ رُکْنِیَۃ: کونے کی ٹھوکر۔ رَکِین: مضبوط، متوازن، معتمد، ٹھنڈے دل و دماغ کا، سنجیدہ، خاموش، متین۔ رُکُون: اعتماد، بھروسہ اعتبار۔ مِرْکَن: ٹب۔ مُرَاکَنَۃ: منگنی، نسبت۔ اِرْکان: اعتماد، بھروسہ، اعتبار۔

رکا: ا۔ رَکَا ـ رَکْوًا الارضَ: زمین کو کھودنا۔ اَرْکَی اِرْکاءً الارضَ: زمین کھودنا۔ الرَّکِیَّۃ جمع رَکَایَا و رَکِیّ: پانی والا کنواں۔

۲۔ رَكَا ـ رُكُوًّا الحوضَ: حوض کو مرمت کر کے تیار کرنا۔ ـ الامرَ: کام کو درست کرنا۔ ـ الشيءَ: چیز کو باندھنا۔ اَرْكَى اِرْكَاءً الحوضَ: حوض کو مرمت کر کے تیار کرنا۔ المَرْكُو: کنویں کا چوبچہ۔

۳۔ رَكَا ـ رُكُوًّا الامرَ: معاملہ کو مؤخر کرنا، ملتوی کرنا۔ اَرْكَى اِرْكَاءً الامرَ: معاملہ کو موخر کرنا، ملتوی کرنا۔

۴۔ رَكَا ـ رُكُوًّا الحملَ على البعيرِ: اونٹ پر بوجھ کو دو چند کرنا۔

۵۔ رَكَا ـ رُكُوًّا على فلان: کی بدگوئی کرنا۔ اَرْكَى اِرْكَاءً عليه: کی بدگوئی کرنا۔

۶۔ رَكَا ـ رُكُوًّا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ رَاكَى على الامر: کسی امر پر بھروسہ کرنا، کا اعتبار کرنا، پر اعتماد کرنا۔ اَرْكَى اِرْكَاءً اليه: کسی کی پناہ لینا، کی طرف مائل ہونا۔ ـــ لهم جنداً: کے لئے لشکر تیار کرنا۔ تَرَكَّى و ارْتَكَى عليه: پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔

۷۔ الرَكْوَة جمع رِكَاء و رَكَوَات: چھاگل، قہوے کا جگ۔ ـــ الرِكْوَة و الرُكْوَة جمع رِكَاء و رَكَوَات: چھوٹی کشتی، ڈونگا، کولہو کے نیچے رس جمع کرنے کے لئے رکھا جانے والا برتن۔ المُرْتَكِي والمَرَاكِي: دیرپا، ثابت۔

○ رَكْوَة جمع رَكَوَات: قہوے کا چھوٹا جگ جو تانبے کا ہوتا ہے۔

رم: ۱۔ رَمَّ ـ رَمًّا و مَرَمَّةً البناءَ او الامرَ: عمارت کی مرمت کرنا، معاملہ درست کرنا۔ ـ السهمَ بعينه: تیر کو دیکھ کر اس کو برابر کرنا۔ رَمَّمَ البناءَ: عمارت کی مرمت کرنا۔ تَرَمَّمَ الشيءَ: کسی چیز کی اصلاح کے پیچھے لگنا۔ اِسْتَرَمَّ البناءُ: عمارت کا مرمت کے قابل ہونا۔ ـــ الرجلُ: مرمت واصلاح کے لئے بلانا۔ الرَمّ (مص): کہا جاتا ہے: مالي منه حَمٌّ و لا رَمٌّ: میرے لئے اسکے بغیر چارہ نہیں۔ ماله حَمٌّ ولا رَمٌّ: اس کے پاس کچھ نہیں۔ الرَامَّة من الجواري جمع رُمَّم: سلیقہ دار ماہر لڑکی۔

۲۔ رَمَّ ـ رَمًّا و مَرَمَّةً تِ البهيمةُ: چوپایہ کا ٹہنیوں کو منہ سے پکڑ کر کھانا۔ ـ الشيءَ: کو کھانا۔ تَرَمَّمَ العظمَ: ہڈی کو گوشت سے صاف کرنا۔ اِرْتَمَّتِ البهيمةُ: چوپایہ کا منہ سے ٹہنیوں کو پکڑ کر کھانا۔ ـــ ما على الخوان: دسترخوان کا سب کھانا چٹ کر کے اسے صاف کر دینا۔ الرِمّ: زمین پر گھاس کے بھورے، ترمٹی، کہا جاتا ہے: جَاءَ بالطِمِّ و الرِمِّ: وہ رطب ویابس، خشکی وتری مٹی و پانی یا بہت مال لایا۔

المِرَمَّة و المَرِمَّة: کھر دار جانور کا ہونٹ۔

۳۔ رَمَّ ـ رِمَّةً و رَمًّا و رَمِيمًا العظمُ: ہڈی کا بوسیدہ ہونا صفت: رَمِيم جمع اَرِمَّاء و رِمَام۔ ـــ الحبلُ: رسی کا ٹوٹنا۔ اَرَمَّ العظمُ: ہڈی کا بوسیدہ ہونا، پر مغز ہونا۔ الرُمّ: غم۔ الرِمّ: گودا۔ الرُمَّة جمع رُمَم: بوسیدہ رسی کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے: اَعْطَاهُ الشيءَ بِرُمَّتِهِ: اس نے اسے پوری چیز دی۔ الرِمَّة جمع رِمَم و رِمَام: پرانی رسی کا ٹکڑا، بوسیدہ ہڈی۔ الرَمِيم و الرُمَام: بوسیدہ۔ حبلٌ رِمَام و اَرْمَام و رِمَمٌ: بوسیدہ رسی۔ المُرِمَّات: مصیبتیں۔

۴۔ اَرَمَّ اِلى اللهو: کھیل کود کی طرف مائل ہونا۔ الرُمَامَة: بقدر ضرورت گذارہ۔ کہا جاتا ہے: اِكتفى بالرُمَامَةِ: اس نے ضروریات پوری کرنے والی زندگی پر قناعت کی۔

۵۔ اَرَمَّ القوم: لوگوں کا خاموش ہونا۔

۶۔ الرُمّ: جماعت، گروہ۔ الرِمَّة جمع رِمَم و رِمَام (ح): پردار چیونٹی۔

۷۔ رَمْرَمَ: اپنی حالت درست کرنا۔ تَرَمْرَمَ: بولنے کے لئے منہ ہلا کر خاموش رہنا۔

○ رَمَّ ـ رَمًّا و مَرَمَّةً ه: کی مرمت کرنا، کو جانچ پڑتال کر کے یا کھول کھال کر ٹھیک کرنا۔ ـــ رَمًّا و رِمَّةً: گلنا، سڑنا، خراب ہونا، بوسیدہ ہونا، ضائع جانا، کو گھن لگنا۔ تَرَمَّمَ: (کی) مرمت ہونا۔ رَمّ: مرمت۔ رَمُّ الأسنان: دانتوں کی بوسیدگی۔ رِمَّة: لاش۔ بِرمته: یہ سب، سارا، تمام، جملہ، پورا، کامل، مکمل، پورا پورا۔ سورية بِرِمَّتِهَا: پورا شام (کا ملک)۔ رَمِيم: گلا سڑا، بوسیدہ، خراب۔ رَمَائِم: بوسیدہ ہڈیاں۔ رُمَام: گلا سڑا، بوسیدہ، خراب۔ مَرَمَّة جمع مَرَمَّات: مرمت، بحری جہاز بنانے یا مرمت کرنے کی جگہ۔ تَرْمِيم جمع تَرْمِيمات: جانچ پڑتال یا کھول کھال کر ٹھیک کرنا، بحالی، پہلا سا بنا دینا۔

رما: رَمَاً ـ رَمْأً و رُمُوْءًا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـــ الخبرَ: خبر کا گمان کرنا، اندازہ کرنا۔ ـ عَلَى المائةِ: سو سے زیادہ ہونا۔ اَرْمَأَ على المائةِ: سو سے زیادہ ہونا۔ ـــ اليه: کے قریب ہونا۔ مُرْمَآتُ الأخبار: جھوٹی بے بنیاد خبریں۔

رمث: ۱۔ رَمَثَ ـ رَمْثًا هُ: کی اصلاح کرنا، درستی کرنا، کو ہاتھ سے پوچھنا۔ اَرْمَثَ الشيءَ: چیز کو نرم کرنا۔ الرِمْث: پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس۔

الرَمَث جمع اَرْمَاث و رِمَاث: لکڑی کے گٹھوں کا بیڑا، بوسیدہ رسی۔ حبلٌ اَرْمَاث (حبلٌ ارمام کی طرح): بوسیدہ رسی۔

۲۔ رَمَثَ ـ رَمْثًا هُ: کو چرانا۔

۳۔ رَمَثَ ـ رَمْثًا الشيءَ بالشيءِ: ایک چیز کو دوسری سے ملانا، مخلوط کرنا۔ رَمِثَ ـ رَمَثًا امرُهُم: کا معاملہ مخلوط و بے ترتیب ہونا، گڈمڈ ہونا۔

۴۔ رَمِثَ ـ رَمَثًا البعيرُ: اونٹ کا رمث درخت کے پتے کھانے سے بیمار ہونا۔ الرِمْث (ن): جھاؤ کے درخت جیسا ایک درخت، اونٹوں کی چراگاہ جس میں ایک قسم کی تلخ گھاس جسے حمض بھی کہتے ہیں پائی جاتی ہے۔ الرَمْثَاء و المَرْمَثَة: رمث گھاس اگانے والی زمین۔

۵۔ رَمَّثَ الحالبُ في الضرع: دوہنے والے کا تھنوں میں کچھ دودھ باقی چھوڑنا۔ اَرْمَثَ الحالب في الضرع: دوہنے والے کا تھنوں میں کچھ دودھ باقی چھوڑنا۔ ـــ اِسْتَرْمَثَ في ماله: مال میں کچھ باقی رکھنا، چھوڑنا۔ الرَمَث جمع اَرْمَاث و رماث: تھن میں چھوڑا ہوا باقی دودھ۔ الرُمْثَة: دوہنے کے بعد تھن میں باقی بچنے والا دودھ۔

۶۔ رَمَّثَ على المائةِ: سو سے اوپر یا زائد ہونا۔

۷۔ الرِمْث: پیٹھ کا کمزور شخص۔ الرَمَث جمع اَرْمَاث و رِمَاث: فضیلت۔ کہا جاتا ہے: لفلانٍ على فلانٍ رَمَثٌ: فلاں شخص کو فلاں شخص پر فضیلت حاصل ہے۔

○ رَمَث جمع اَرْمَاث: لکڑی کے گٹھوں کا بیڑا۔

رمج: رَمَجَ ـ رَمْجًا الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ رَمَّجَ الكاتبُ: لکھنے والے کا اپنے لکھے ہوئے کو بگاڑ دینا۔ الرَامِج (ح): زندہ پرندہ جو باز وغیرہ کے شکار کے لئے جال سے باندھ کر بطور طعمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ الرُمَّاج: نیزے کی گرہیں اور پوریاں۔

رمح: ۱۔ رَمَحَ ـ رَمْحًا هُ: کو نیزہ مارنا۔ ـ البرقُ: بجلی کا بار بار ہلکا ہلکا چمکنا۔ رَامَحَ هُ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔ تَرَامَحَ القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے کو نیزے مارنا۔ الرُمْح جمع رِمَاح و اَرْمَاح: نیزہ۔ کہا جاتا ہے: كسروا بينهم رُمْحًا: انکے درمیان شر و فساد بھڑک اٹھا۔ رُمِينَا بيومٍ كَظِلِّ الرُمْحِ: ہمارا پالا لمبے اور مصیبت کے دن سے پڑا۔ هم على بني فلانٍ كرمحٍ واحد: وہ لوگ بنی فلاں کے خلاف ایک جی اور متحد ہیں۔ اخذت الابل رِمَاحها: اونٹنیاں دودھ دینے لگیں اور انہوں نے خود

کوذبح ہونے سے بچالیا۔ الــرَّامِـح: نیزہ والا۔ ثورٌ رَامِحٌ: دوسینگوں والا بیل۔ السِماك الرامح (فلك): ایک ستارہ کا نام ہے۔ الــرَمَّاح جمع رَمَّاحة: نیزہ بنانے والا، نیزہ لینے والا۔ الرَمَّاحة من القِسِيّ: زور سے نیزہ پھینکنے والی کمان۔ الرِمَاحَة: نیزہ سازی کا پیشہ۔

۲۔ رَمَحَ - رَمْحَاتُهُ الدابَّةُ: کوجانور کالات مارنا۔

۳۔ الــرُمْــح: فقروفاقہ، تنگدستی اور فاقہ کشی۔ دابَّةٌ رَمَّاحة و رَمُوح: بہت کاٹنے والا جانور۔

⭘ رَمَحَ - رَمْحًا ہ: کونیزہ سے چھیدنا، کونیزہ چبھونا، کے نیزہ آرپار کرنا۔ -: (گھوڑے کا) سرپٹ دوڑنا۔ رُمْح جمع رِمَاح و اَرْمَاح: نیزہ، بھالا، برچھی، بلم، سنان، بان، قطب۔ رَمْــيُ الــرُمْــح: برچھی پھینکنا۔ رَمَّاح جمع رَمَّاحَة: نیزہ باز، نیزہ بردار، رسالے کا سپاہی جو نیزہ سے مسلح ہو۔ پروشیا کا نیزہ بردار سوار۔ السِماكُ الرَامِح: ایک ستارہ کا نام۔

رمخ: اَرْمَخَ الرجلُ: نرم وذلیل ہونا۔ الرِمْخ: گنجان درخت۔

رمد: ا۔ رَمَدَ - رَمْــدًا و رِمَــادَةً: ٹھنڈ سے ہلاک ہونا۔ ـــ ـ رَمْدًا القوم: قوم کوتہس نہس کردینا، ہلاک کردینا۔ رَمِدَ - رَمَدًا عيشُ القومِ: قوم کا ہلاک ہونا۔ اَرْمَدَهُ: کوہلاک کرنا۔ ـ القومُ: قوم کے مویشیوں کا ہلاک ہوجانا۔ الرَمَادَة: ہلاکت۔

۲۔ رَمِدَ - رَمَدًا تِ العينُ: آنکھ کا آشوب کرنا۔ ـــ الــرجلُ: کی آنکھ کا دکھنا، آشوب چشم ہونا۔ اَرْمَدَ العينَ: آنکھ کو آشوب زدہ کرنا۔ اِرْمَدَّتِ العينُ: آنکھ کا آشوب کرنا۔ الرَمَد (طب): آشوب چشم، آنکھ دکھانے والی ہر چیز۔ الرَمِد مونث رَمِدَة: آشوب چشم والا۔ الاَرْمَدَ مؤنث رَمْدَاء: آشوب چشم میں مبتلا۔ الــمُرْمَدُ والمُرْمَدَ: آشوب چشم والا۔

۳۔ رَمَدَتِ الناقةُ: اونٹنی کا تھن والی ہونا۔

۴۔ رَمَدَ الشيءَ: چیز کوراکھ میں رکھنا۔ اَرْمَدَ: فقیرو محتاج ہونا۔ ـــ هُ: کوراکھ کرڈالنا، تباہ وبرباد کردینا۔ ـ القومُ: قوم کا قحط زدہ ہونا۔ اِرْمَدَّ الشيءُ: چیز کا راکھ جیسے رنگ والا ہونا۔ ـــ فلانٌ: شترمرغ کی طرح دوڑنا۔ ـــ الرَمِد مؤنث رَمِدَة من المياه: متغیر پانی۔ ـ من الثياب: میلا کچیلا کپڑا۔ الرَمَاد جمع اَرْمِدَة: راکھ۔ کہتے ہیں: هو ينفخ فی رَمَــاد: وہ راکھ میں پھونکیں مارتا ہے یعنی بے فائدہ و بے نتیجہ کام کرتا ہے۔ الــرَمَــادِيّ: راکھ جیسے رنگ والا، خاکستری رنگ کا۔ الــرَمَــادِيَّة (ن): ایک پھولدار پودا۔ الــرُمْــدَة: راکھ کا رنگ۔ الأَرْمَد مؤنث رَمْدَاء: خاکستری رنگ کا۔ ثوبٌ اَرْمَد: میلا کچیلا کپڑا۔ الرَمْداء جمع رُمْد: شترمرغ۔ الــمُــرَمَّد: بھوبھل میں بھنا ہوا۔ الــرِمِــدَاء و الارْمِدَاء: راکھ۔

⭘ رَمِدَ - رَمَدًا: کسی کی آنکھوں کا دکھنا، آشوب چشم ہونا، آنکھوں کا سرخ ہونا۔ رَمَّدَ ہ: کوجلا کرراکھ کر ڈالنا، خاکستر کرڈالنا۔ تَــرَمَّدَ: جل کرراکھ ہوجانا۔ رَمَــد: آنکھ کا آنا، ورم چشم، آشوب چشم۔ رَمَــد حُبَيْبِــي: آنکھ کی ایک بیماری جس میں پپوٹے کے اندر دانے نکل آتے ہیں۔ مستشــفی الرَمَد: آنکھوں کا مطب۔ رَمَدِی و طبیبٌ رَمَدِیٌّ: ماہر امراض چشم، معالج امراض چشم، آنکھوں کا ڈاکٹر۔ رَمِد: آشوب چشم والا۔ اَرْمَد: آشوب چشم والا۔ رَمَاد جمع اَرْمِدَة: راکھ۔ اَرْبعاءُ الرماد یا نوم الرماد یا عید الرماد: عیسائی چلے کا پہلا دن، سر پر راکھ ڈالنے کا دن (Ash wednesday)۔ نفخ فی الرماد: بے نتیجہ کاموں میں مشغول ہونا۔ رَمَادِی: خاکستری۔ تَــرْمِيــد: لاش جلانا، نعش سوزی، جلا کر راکھ کرنا، کشتہ بنانے کا عمل۔

رمز: ا۔ رَمَزَ ـ رَمْزًا اليــه: کی طرف اشارہ کرنا۔ تَرَامَزَ القومُ: ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: دخلت عليهم فتغافمزوا و ترامزوا: میں ملاقات کے لئے ان کے پاس گیا تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ بازی کی۔ الــرُمْــز و الرَمْز و الرَمَز جمع رُمُوز: اشارہ۔ الرَمَّازَة: زانیہ، رنڈی۔ الرَمْزِيَة: اشاریت، رمزیت۔

۲۔ رَمَزَ ـ رَمَــزَانــاً الظبیُّ: ہرن کا چھلانگ مارنا۔ تَــرَمَّزَ و اِرْتَمَزَ: تیار ہونا۔ ـــ من الضربة: چوٹ سے بلبلا جانا۔ ـــ القومُ: اٹھنے کے لئے یا خصومت کے لئے اپنی جگہ کسمسانا، کلبلانا۔ اِرْمَــازَّ اِرْمِــئْزَازًا الرجلُ: متحرک ہونا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اپنی جگہ جمے رہنا (ضد)، منقبض ہونا۔ الــرَمِيــزُ: بہت حرکت کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: رجــلٌ رَمِيــزُ الفُؤَاد: تنگ دل آدمی۔ الــتُــرَامِــز من الابل: مضبوط اور پوری طاقت والا اونٹ۔ الــرَمَّــازَة: بڑا لشکر۔ اِبِــلٌ مَــرَامِيــز: بہت حرکت کرنے والے اونٹ۔

۳۔ رَمَزَ ـ رَمْزًا هُ بِكذا: کو سے اکسانا، بھڑکانا۔

۴۔ رَمَزَ ـ رَمْزًا القِربَةَ: مشک کوبھرنا۔

۵۔ رَمُزَ ـ رَمَــازَةً: عاقل ہونا، اصیل ہونا، مکرم و معظم ہونا۔ الرَمِيز: اصیل، عقلمند، معظم مکرم۔

⭘ رَمَزَ ـ رَمْزًا: اشارہ کرنا، آنکھ سے اشارہ کرنا، سر سے اشارہ کرنا، ہل کر یا اشارے سے کہنا۔ ـــ اِلی: کو انگلی سے بتانا، اشارہ کرنا، کی طرف اشارہ کرنا، کی علامت ہونا، کا کنایۃً اظہار کرنا، کا نمونہ ہونا، کی نمائندگی کرنا، کا کردار ادا کرنا۔ ـــ الی/ ل ب: کو (ایک امتیازی نشان) سے معین کرنا۔ رَمْــز جمع رُمُــوز: اشارہ، سر کا اشارہ، آنکھ کا اشارہ، حرکت، کنایہ، تلمیح اطلاع دینا، مجازیت، پہیلی، چیستان، معمہ، نشان، علامت، رمز، مجازی صورت، شکل، خصوصیت، خفیہ، علامت یا نشان یا اشارہ، خفیہ اشارہ۔ رَمْزِيّ: رمزی علامتی، اشارے یا علامت کا، خفیہ تحریر میں، خفیہ رسم الخط میں۔ رَمْزِيَات: خفیہ تحریر، خفیہ رسم الخط۔ رَامُوز جمع رَوَامِيز: نمونہ، بانگی، چرم، ہو بہو نقل۔

رمس: ا۔ رَمَسَ ـ رَمْسًا ہ: کوڈھانپنا، دفن کرنا، زمین میں گاڑنا۔ ـ القبرَ: قبر پر مٹی برابر کرنا۔ ـ الخبرَ: خبر کو چھپانا۔ ارمس الميتَ: میت کو دفنانا۔ اِرْتَمَسَ فی الماء: پانی میں ڈوبنا۔ الرَمْس (مص) جمع رُمُوس و اَرْمَاس: قبر جو زمین کے برابر ہو، قبر کی خاک، آہستہ ودھیمی آواز۔ الرامُوس جمع رَوَامِيس: قبر۔ الرَوَامِس: رات کو نکلنے والے جانور، رات کو اڑنے والے پرندے۔ ـــ والــرَامِســات: نشانات کو مٹا دینے والی ہوائیں۔ المَرْمَس: قبر کی جگہ۔

۲۔ رَمَسَ ـ هُ بالحجر: پر پتھر پھینکنا۔ صفت مفعولی: رَمِيس و مَرْمُوس۔

⭘ رَمَسَ ـ رَمْسًا ہ: کو دفنانا۔ ـــ ہ: قدموں کے نشانات کو چھپا دینا، مٹانا، محو کرنا، کا نام ونشان مٹا ڈالنا۔ اِرْتَمَسَ فی الماء: پانی میں ڈوبنا۔ رَمْس جمع رُمُــوس و اَرْمَــاس: قبر، مقبرہ۔ رَامُوس: قبر، مقبرہ۔

رمش: ا۔ رَمَشَ ـ رَمْشًا الشیءَ: کو انگلیوں کے سروں سے پکڑنا۔ ـــ هُ بيده: کو ہاتھ سے چھونا۔ ـ هُ بالحجر: کو پتھر مارنا۔

۲۔ رَمَشَ ـ رَمَشَــاتِ الغنمُ: بکریوں کا تھوڑا سا چرنا۔ اَرْمَــشَ الشجرُ: درخت کا پتے لانا، پھل دار ہونا۔ الــرَمَــش: پھولوں کا دستہ۔ الأَرْمَــش مونث رَمْشَاء جمع رُمْش: خوبصورت ساخت والا، مختلف رنگوں والا۔ اَرضٌ رَمْشَاء: بہت گھاس

والی زمین۔

۳۔رَمِشَ ۔ رَمَشًا تِ العینُ: آنکھ کا تھوڑا سا چمکنا۔ اَرْمَشَ الرجلُ: ضعف کی وجہ سے کسی کی طرف بہت دیکھنا۔ ــــ فی الدمع: تھوڑے سے آنسو بہانا۔ رَمَشُ العین: آنکھ کی پلک۔ الرَمَش (طب): پلکوں کی سرخی اور ساتھ ساتھ پانی کا بہنا، پلکوں کے بالوں کا آپس میں چپکنا۔ الاَرْمَش والمُرَمَّش: چندھی آنکھوں والا۔ المِرْماش جمع مَرَامِیش: دیکھتے وقت آنکھوں کو بہت مٹکانے والا۔

۴۔الرُمْش سفیدی جو جوانوں کے ناخنوں پر ظاہر ہوتی ہے۔

○ رمش: رَمْشًا ہ: کو انگلیوں کے سروں سے لینا، پکڑنا۔ ــــ آنکھ یا پلک یا پلکیں جھپکنا۔ رَمَش پپوٹوں کی سوجن۔ رَمْشَة: پلک جھپکنا، آنکھ جھپکنا۔ رِمْش جمع رُمُوش: پلک۔

رمص: ارمَصَ ۔ رَمْصًا اللّٰهُ مصیبتَهٗ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی مصیبت کو ٹالنا۔ ــــ بینهم: میں صلح کرانا۔

۲۔رَمَصَ ۔ رَمْصًا الشیءَ: کو ڈھونڈنا، ٹٹولنا۔

۳۔رَمَصَ ۔ رَمْصًا تِ الدجاجةُ: مرغی کا بیٹ کرنا۔ صفت: رَمُوص۔ ــــ ت السباعُ: درندہ کا بچہ جننا، کہا جاتا ہے: قَبَّحَ اللّٰهُ اُمًّا رمصت به: اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی شکل بگاڑے جس نے اسے جنا۔

۴۔رَمَصَ ۔ رَمْصًا الیه: کی طرف پست نگاہ سے دیکھنا۔ رَمِصَ ۔ رَمَصًا ت عینُه: کی آنکھ سے کیچڑ بہنا۔ صفت: اَرْمَص مونث رَمْصاء جمع رُمْص۔ ــــ الرجلُ: کیچڑ والی آنکھوں والا ہونا۔ الرَمَص (مص): آنکھ کا کیچڑ۔

رمض: ارمَضَ ۔ رَمْضًا الغنمَ: بکریوں کو سخت گرم زمین میں چرانا۔ ــــ النصلَ: پھل کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کوٹنا تا کہ وہ باریک ہو جائے۔ رَمِضَ ۔ رَمَضًا النهارُ: دن کا بہت گرم ہونا۔ ــــ ت الشمسُ: ریت وغیرہ پر تیز دھوپ کا پڑنا۔ ــــ الرجلُ: کے پاؤں گرم زمین سے جلنا۔ ــــ الطائرُ: پیاس کی شدت سے پرندے کے پیٹ کا گرم ہونا۔ ــــ ت عینُهٗ: گرم ہو کر کی آنکھ کا جلنے کے قریب ہونا۔ ــــ للامر: پر غصہ میں آگ بگولا ہونا۔ رَمَّضَ الغنمَ: بکریوں کو سخت گرم زمین میں چرانا۔ اَرْمَضَ الغنمَ: بکریوں کو سخت گرم زمین میں چرانا۔ ــــ الشیءَ: کو جلانا۔ ــــ الرجلَ: کو دکھ دینا۔ ــــ الحرُّ القومَ: گرمی کا تیز ہو کر لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ ــــ الامرُ فلانًا: معاملہ کا کسی کو آگ بگولا کر دینا۔ ترَمَّضَ الصیدَ: کو سخت گرمی میں شکار کرنا۔ اِرْتَمَضَ من الحزن: غم سے جلنا۔ ــــ لفلان: کے لئے غم زدہ ہونا۔ الرَمَض (مص): گرمی کی جلن، خریف سے پہلے کی بارش جو زمین کو گرم اور جلتی پائے۔ الرَمَضِیّ من السحاب و المطر: گرمی کے آخر اور خریف کے ابتداء کی بارش۔ الرَمِیض و الرَمِیضَة من النصال: تیز بھالا۔ رَمَضان جمع رَمَضانات و رَمَاضِین و اَرْمِضَاء و اَرْمِضَة: ماہ رمضان (نواں قمری مہینہ) یہ مسلمانوں کا روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ الرَمْضَاء: گرمی کی شدت، سورج کی گرمی کی شدت سے گرم زمین۔ الرَمَاضَة: واقعہ کی حدت و شدت۔

۲۔ رَمَضَ الصومَ: روزہ کی نیت کرنا۔ ــــ الرجلَ: کا تھوڑا سا انتظار کر کے چل پڑنا۔

۳۔ترَمَّضَ تْ نفسُهٗ: کا جی متلانا۔ اِرْتَمَضَ تْ کبدُهٗ: کا جگر خراب ہونا۔

۴۔اِرْتَمَضَ تِ الفرسُ به: سے گھوڑے کا کودنا۔

○ اِرْتَمَضَ: رنج و غم سے جلنا۔ رَمَض: پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ جانا، زمین کا گرمی کی شدت سے جھلسنا۔ رَمْضَاء: سورج سے تپی ہوئی زمین۔ اِستَجارَ مِن الرمضاء بالنار: آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔

رمط: رَمَطَ ۔ رَمْطًا هٗ: پر عیب لگانا، طعن و تشنیع کرنا۔

رمع: ارمَعَ ۔ رَمَعَانًا انفُهٗ: کی ناک کا غصہ یا بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا۔ صفت: رَمِع۔ ــــ راسَهٗ: اپنے سر کو ہلانا۔ ــــ بیده: ہاتھ سے اشارہ کرنا۔ ــــ عینه بالدموع: کی آنکھ کا آنسو بہانا۔ ــــ رَمْعًا و رَمَعَانًا الرجلُ: تیز چلنا۔ ترَمَّعَ: غصہ سے ہلنا، کانپنا، لرزنا۔ الرَامِع (فا): سر جھکا کر اٹھانے والا۔ الرَمَّاعَة: بچہ کا تالو جو حرکت کرتا ہے، دبر۔ المُرْمِعَة: بیابان۔ کہا جاتا ہے: اَتی بُرَمَّعَاتِ الاخبار: وہ جھوٹی خبریں لایا۔ الیَرْمَع جمع یَرَامِع: پھرکی، سفید چمکتی ہوئی کنکریاں۔ کہتے ہیں: ترکتُه یَفُتُّ الیَرْمَعَ: میں نے اس کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ غم اور صدمہ سے چور چور تھا۔

۲۔رَمِعَ تِ المرأةُ بالصبی: عورت کا بچہ جننا۔

۳۔رُمِعَ الساقِی: ساقی کی پیٹھ یا پیٹ میں درد ہونا۔ اُرْمِعَ الساقی: بمعنی رُمِعَ الساقی۔ الرُمَاع (طب): پیٹھ کا درد، پیٹ کا درد۔

۴۔الرُمَّعَة: [illegible] کہا جاتا ہے۔ [illegible] گھاس کا کچھ حصہ۔

رمغ: رَمَغَ ۔ رَمْغًا الشیءَ: کو چیڑے کی طرح ہاتھ سے ملنا۔ ــــ الطعامَ: کھانے کو سالن سے تر کرنا۔ ــــ الکلامَ: گفتگو میں جھوٹ سچ ملا کر اس کو چھپا کرنا۔ رَمَّغَ راسَهٗ: سر میں تیل لگانا۔

رمق: ارمَقَ ۔ رَمْقًا هٗ: پر اچٹتی نظر ڈالنا، کو دیر تک دیکھنا۔ رَمَّقَ: دیر تک دیکھتا رہنا۔ رَامَقَ مُرَامَقَةً الرجلَ: کا نظر سے تعاقب کرنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا، کی برائی سے بچنے کے لئے اس کے ساتھ خاطر و مدارات سے پیش آنا۔ الرِمَاق: دشمنی کی ترچھی نظر سے دیکھنا۔ الرَامِق و الرَمُوق جمع رُمُق: حسد کرنے والا۔ المُرَامِق: بدخلق۔ الیرمُوق: کمزور نظر شخص۔

۲۔رَمَّقَ بالشیءِ: کے آخری سانس کو کسی شئے سے بچا لینا۔ ــــ العملَ: کسی کام کو اچھی طرح نہ کرنا۔ رَامَقَ مُرَامَقَةً العملَ: کام کو اچھی طرح نہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: هذه النخلة ترامِقُ بعِرقٍ: کھجور کا یہ درخت نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے۔ ترَمَّقَ الماءَ او اللبنَ: پانی یا دودھ کو تھوڑا تھوڑا پینا۔ اِرْمَقَّ: پتلا ہونا، باریک ہونا۔ ــــ الشیءُ: کمزور ہونا۔ اِرْمَاقَّ: پتلا ہونا، باریک ہونا۔ ــــ الشیءُ: کمزور ہونا۔ ــــ الرجلُ: لاغری سے ہلاک ہونا۔ الرَمَق جمع اَرْمَاق: زندگی کے آخری سانس۔ ــــ مِن العیش: کم سے گذارہ جس سے آخری سانس باقی رہ سکے۔ کہا جاتا ہے: سَدَّ رَمَقَ الجائِعِ: کو کھلا کر بھوک کی موت سے بچانا۔ عیش رَمِق و رِمَاق: تنگدستی کی زندگی، تنگ گذران۔ رجلٌ رُمَّقٌ: کمزور آدمی۔ الرامِق والرمُوق جمع رُمُق: فقیر۔ الرُمْقَة و الرَمَاق و الرِمَاق من العیش: بہت قلیل گذارہ جس سے انسان صرف زندہ رہ سکے، قوت لایموت۔ المُرْمَق و المُرَمَّقُ العیش: تنگ گذران والا آدمی۔ المُرامِق: بے مہر۔

۳۔رَمَّقَ الکلامَ: کلام کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔ الرِماق: نفاق، منافقت۔

۴۔اِرْمَقَّ الطریقُ: راستہ دراز ہونا۔

۵۔الرَمَق: بکریوں کا ریوڑ، گلہ (فارسی رَمَہ سے معرب ہے)۔

○ رمق: رَمَقَ ۔ رَمْقًا هٗ: کو دیکھنا، پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، چھچلتی ہوئی نظر ڈالنا، کو غور سے دیکھنا، کی طرف دیکھنا۔ رَمَّقَ هٗ: کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، گھورنا۔ ــــ هٗ: کوئی کام بے توجہی اور غفلت سے کرنا، کام

بھونڈے پن سے کرنا۔ ــــ ہ: کو بمشکل زندہ رکھنا۔

تَـرَمَّق ہ: کسی موقع وغیرہ کا منتظر رہنا۔ رَمَق جمع اَرمَاق: زندگی کا سانس، زندگی کا آخری شعلہ۔ سَدَّ رَمَقَهُ: کو بمشکل زندہ رکھنا، مشکل سے گزارہ کرنا، زندہ رہنے کی تگ ودو کرنا، کو بمشکل زندہ رکھنا، کی بھوک مٹانا۔ عَلَى آخرِ رَمَقٍ: قریب المرگ، ختم ہی ہونے والا۔ مَـرْمُـوق: جس کی طرف دیکھا گیا ہو، ٹکٹکی باندھکر دیکھا ہوا، مشہور، اہم، دلچسپی کا، قابل ذکر، قابل توجہ، ممتاز، نمایاں، غیر معمولی، معنی خیز، مغرور، متکبر۔

رمك: ۱۔ رَمَكَ ۔ رُمُوكًا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ــــ تِ الابلُ على الماء: اونٹوں کا پانی پر پڑاؤ کرنا۔ اَرْمَكَهُ بالمكان: کو کسی جگہ ٹھہرانا۔

۲۔ اِرْمَكَّ اِرْمِكَاكًا: دبلا پتلا ہونا۔ رجُلٌ رَمَكَةٌ: کمزور آدمی۔

۳۔ اِرْمَكَّ اِرْمِكَاكًا البعيرُ: اونٹ کا خاکستری رنگ کا ہونا۔ صفت: اَرْمَكُ مؤنث رَمْكَاء جمع رُمْك۔ الرُمْكَة: اونٹوں کا خاکستری رنگ۔

۴۔ اِسْتَرْمَكَ القومُ: حسب میں کھوٹ رکھنا، عیب دار ہونا۔ الرَمَكَة جمع رَمَك و رِمَاك و رَمَكَات و اَرْمَاك (ح): گھوڑی یا وہ گھوڑی جو نسل چلانے کے لئے رکھی جائے۔ الرَامِك و الرَامَك: ایک قسم کی خوشبو۔ بعض کے نزدیک سیاہ رنگ کی چیز جو خوشبو میں ملائی جاتی ہے۔

○ اَرْمَك مؤنث رَمْكَاء: خاکستری رنگ کا۔ رَمَكَة جمع رَمَكَات و رِمَاك و اَرْمَاك: گھوڑی۔

رمل: ۱۔ رَمَلَ ۔ رَمْلًا الطعامَ: کھانے میں ریت ملانا۔ رَمَّلَ الخطَّ: لکھے ہوئے پر خشک کرنے کے لئے ریت ڈالنا۔ الرَمْل جمع رِمَال و اَرْمَال (ط ا): ریت۔ رَمْلَة: ریت کا سانپ۔ علمُ الرَمْل: ایک علم جس میں ریت پر لکیریں کھینچ کر آئندہ کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ یہ خرافات میں سے ہے۔ الـرَمْلَة: (زمین کا وہ قطعہ جس پر) ریت کا ٹیلا (ہو)۔ الرَمَّال: ریت بیچنے والا۔ المُرْمِل و المُرْمَل (ح): شیر۔

۲۔ رَمَلَ ۔ رَمْلًا النسيجَ: کپڑا باریک بننا۔ رَمَّلَ النسيجَ: بمعنی رَمَلَ النسيجَ۔ اَرْمَلَ النسيج: کپڑا باریک بننا۔

۳۔ رَمَلَ ۔ رَمْلًا السريرَ: تخت کو جواہر وغیرہ سے سجانا۔ ــــ الكلامَ: کلام کو جھوٹا قرار دینا۔ گھٹیا قرار دینا۔

۴۔ رَمَلَ ۔ رَمْلًا الثوبَ بالدم: کپڑے کو خون سے لتھیڑنا۔ رَمَّلَ الثوبَ بالدم: کپڑے کو خون میں لتھیڑنا۔ اَرْمَلَ السهمُ بالدم: تیر کا خون سے لتھڑنا۔ تَـرَمَّلَ و اِرْتَمَلَ بالدم: خون سے لتھڑنا۔

۵۔ رَمَلَ ۔ رَمَلًا و رَمَلَانًا و مَرْمَلًا: کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلنا۔

۶۔ رَمَّلَتِ المرأةُ من زوجها: عورت کا بیوہ ہونا، رانڈ ہونا۔ اَرْمَلَتِ المرأةُ: عورت کا بیوہ ہونا، رانڈ ہونا۔ ــــ القومُ: قوم کی خوراک یا توشہ کا ختم ہو جانا، فقیر ہونا۔ ــــ القومُ زادَهم: قوم کا توشہ ختم ہونا۔ تَـرَمَّلَتِ المرأةُ: عورت کا بیوہ ہونا، رانڈ ہونا۔ الـرَمَل: تھوڑی سی بارش۔ الأَرْمَل جمع اَرَامِل و اَرَامِلَة مؤنث اَرْمَلَة: رنڈوا، مسکین۔ عـامٌ اَرْمَل: کم بارش اور نفع والا سال۔ سَـنَةٌ رَمْلَاء: کم بارش اور نفع والا سال۔ الأَرْمَلَة جمع اَرَامِل: بیوہ محتاج اور کمزور لوگ۔

۷۔ اَرْمَلَ الحبلَ: رسی دراز کرنا۔ الرَمَل: زیادتی (کسی شئے میں)۔

۸۔ الـرَمَـل: علم عروض کی ایک بحر کا نام، جس کا وزن ہے: فَـاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلُنْ (مو): فن موسیقی کا ایک راگ، نیل گائے کی ٹانگوں میں دھاریاں جو جسم کے دوسرے حصوں کے رنگ سے مختلف ہوں۔ الرُمْلَة جمع رُمَل و اَرْمَال: سیاہ دھاری۔ اُم رِمال (ح): بجو۔ نعجةٌ رَمْلَاءُ: بھیڑ جس کی ٹانگیں سیاہ رنگ کی ہوں، جب کہ باقی جسم سفید ہو۔ المِرْمَل: چھوٹی بیٹری۔

○ رَمَّـلَ ہ: پر ریت چھڑکنا (سیاہی خشک کرنے کے لئے)۔ اَرْمَلَ و تَـرَمَّلَ: رنڈوا یا بیوہ ہو جانا۔ رَمْل جمع رِمَال: ریت۔ علـم الرمل یا ضـربُ الـرمـل: علم الاعداد، جفر، علم رمل۔ رمل (ریت میں لکیریں یا نشان بنا کر غیب کا حال بتانا)۔ رَمْلِي: ریتلا، ریت کا، بالو کے رنگ کا، مٹیالا، زردی مائل، ریگ مثانہ کا، ریگستانی۔ ساعة رملية: ریت گھڑی۔ رَمَل: علم عروض کی ایک بحر کا نام۔ رَمَّال: زائچہ دان، رمل کا جاننے والا، علم جفر کا ماہر، رمال۔ اَرْمَل جمع اَرَامِل: رنڈوا۔ اَرْمَلَة جمع اَرَامِل و اَرَامِلَة: بیوہ۔ مِرْمَلَة: کھوکھلی جگہ جس کے کچھ حصہ میں بچوں کے کھیلنے کے لئے ریت ہو۔ تَـرَمُّل: بیوگی، رنڈواپن۔

رمن: الرُمَّان واحد رُمَّانَة (ن): انار، انار کا درخت۔ الرُمَّانَة: ناف اور اس کے آس پاس پیٹ کا حصہ۔ (اع): انار (آتش بازی والا)۔ المَـرْمَنَة: انار اگنے کی جگہ۔

○ رُمَّان واحد رُمَّانَة: انار، انار کا درخت، گرہ، گانٹھ۔ رُمَّانَة يدوية جمع رمانات يدوية: دستی بم (hand grenade)۔

○ ارمن و ارمني: الأَرْمَن: آرمینیا کے باشندے۔ ارمني: آرمینیا کا، آرمینیا کا باشندہ۔

○ اَرْمِينيا: آرمینیا (ملک)

رمه: رَمِهَ ۔ رَمَهًا اليومُ: دن کی گرمی کا شدید ہونا، دن کا سخت گرم ہونا۔

رمی: ۱۔ رَمَى ۔ رَمْيًا و رِمَايَةً الشيءَ او بالشيءِ: کو پھینکنا۔ کہا جاتا ہے: رمى السهمَ عن او على القوسِ: اس نے کمان سے تیر پھینکا۔ رَمَى بحبله على غاربه: اس نے اس کی رسی اسکے کندھے پر رکھ دی یعنی اس کو آزاد چھوڑ دیا کہ جو چاہے سو کرے۔ ــــ هُ بكذا: پر کوئی عیب لگانا، پر کوئی تہمت لگانا۔ ــــ به على البلد: کو کسی شہر پر والی یا حاکم بنانا۔ ــــ المكانَ او الشيءَ و اليه: کسی جگہ یا چیز کا قصد کرنا۔ ــــ اللّٰهُ لَهُ: اللہ تعالی کا کسی کی مدد کرنا۔ رَامَى مُرَامَاةً و رِمَاءً و تَرَامَاهُ: ایک دوسرے کو تیر مارنا، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، ایک دوسرے کو طاقت سے روکنا۔ ــــ عن قومه: اپنی قوم کا دفاع کرنا، اپنی قوم کے لئے جدوجہد کرنا۔ اَرْمَى اِرْمَاءً الشيءَ مِن يده: کو ہاتھ سے پھینکنا۔ ــــ هُ عن فرسه: کو گھوڑے کی پیٹھ سے گرانا۔ ــــ تْ به البلادُ: کو وطن سے نکال دینا۔ تَرَمَّى: تیر پھینک کر شکار کرنا۔ تَـرَامَى تَـرَامِيًا القومُ: ایک کا دوسرے پر تیر مارنا یا پتھر برسانا۔ ــــ تْ به البلادُ: کو وطن سے نکال دینا۔ ــــ الامرُ: کام میں تاخیر ہونا۔ کہا جاتا ہے: ترامى امره إلى الظَفَر او الخذلان: کا معاملہ، کامیابی یا مایوسی پر منتج ہوا۔ اِرْتَمَى اِرْتِمَاءً: پھینکا جانا۔ کہا جاتا ہے: رَمَاهُ فَارْتَمَى: اس نے اسے پھینکا تو وہ پھینکا گیا۔ ــــ الصيدَ: شکار کو تیر مارنا۔ ــــ تْ به البلادُ: کو وطن سے نکال دینا۔ اِرْتَمَيَا: ایک کا دوسرے پر تیر مارنا یا پتھر برسانا۔ رَمْيُ المِطْرَقَةِ (اع): توپ خانہ کا ایک نشانہ پر گولے برسانا۔ الرِمِيّ: پتھر پھینکنے کی آواز۔ الرَمْيَة: ایک دفعہ کا تیر پھینکنا۔ کہتے ہیں: رَمْيَةٌ من غير رامٍ: غیر متوقع یا غیر مستحق کامیابی۔ الرامي جمع رُمَاة

و رامُون (فا): تیرانداز (فلک) ایک ستارے کا نام۔ الرَّمِيّ جمع اَرْمَاء وارْمِيَة و رَمَايَا: بہت سخت بارش برسانے والا بادل۔ الرَّمِيَّة جمع رَمَايَا: شکار جس پر تیر پھینکا جائے۔ المَرْمَى (مص میمی) جمع مَرَامٍ: تیر پھینکنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: هذا الكلام بعيد المَرامِيّ: یہ ایک دور رس کلام ہے۔ مابَعُدَ مَرْمَى هِمَّتِه: اس کی ہمت کا میدان کتنا وسیع ہے۔ لَهُ هِمَّةٌ قَصِيَّةُ المَرمَى: اس کی ہمت دور تک پہنچنے والی ہے۔ المِرْمَى جمع مَرَامٍ: تیر پھینکنے کا آلہ۔ المِرْمَاة: چھوٹا کمزور تیر، کھر۔

۲۔ رَمَى - رَمْيًا و رِمَايَةً علي الخمسين: پچاس سے زیادہ ہونا۔ — المالُ: مال بہت ہونا۔ اَرْمَى علي الخمسين: پچاس سے زیادہ ہونا۔ تَرَامَى الشيءُ: چیز کا لگاتار رہنا۔ کہا جاتا ہے: مازال الشرُّ يترامى بينهم: شر ان کے درمیان برابر جاری رہا۔ — السحابُ: بادلوں کا ایک دوسرے سے ملنا۔ الرَّمْيَة: زیادتی۔ کہا جاتا ہے: في هذا رَمْيَة عَمَّا قِيلَ لي: جو مجھ سے کہا گیا اس میں اس سے زیادتی ہے۔ هو صاحبُ رَمْيَةٍ: وہ باتوں میں زیادتی کرتا ہے۔ الرَّمَاء: زیادتی، سود۔

۳۔ الرَّامِي او قَنْبُ سِيام (ن): سن، پٹ سن۔

○ رَمَى - رَمْيًا و رِمَايَةً ہ/ب: کو پھینکنا، پٹکنا، پٹخنا، زور سے پھینکنا، بے پروائی سے پھینکنا، بے کار سمجھ کر پھینک دینا، پرے رکھ دینا، چھوڑنا، ترک کرنا۔ — ہ ب: پر سے گولی چلانا، فائر کرنا، پر کا الزام لگانا، پر کی تہمت لگانا، کو کے لئے قصوروار ٹھہرانا، کی پر ملامت کرنا۔ — اِلي: کا نشانہ باندھنا، کا مطلب یا منشا ہونا، کا ذہن میں واضح خیال، ارادہ وغیرہ رکھنا، غرض ہونا، مقصد ہونا، کا ارادہ ہونا، کے درپے ہونا۔ — بين: کے مابین اختلاف رائے یا نزاع کا بیج بونا۔ رَمَاه بِطَلَقٍ نَارِي: پر گولی چلانا۔ رمي بالغيب: غیب دانی کرنا۔ — تَرَامَى: ایک دوسرے پر کوئی چیز پھینکنا، اپنے آپ کو زمین پر گرانا، جھکنا، زمین پر گرنا۔ — علي: اپنے آپ کو پر گرانا، پھینکنا، پٹکنا، پٹخنا۔ — في: اپنے آپ کو میں گرانا، میں یکا یک کود پڑنا، میں اندھا دھند کود پڑنا۔ تَرَامَى: وسیع وعریض ہونا، دور تک پھیلنا، اطلاع، رپورٹ، (خبر وغیرہ) آنا، پہنچنا۔ الي: کسی شخص تک۔ ترامي علي قدميه: کے قدموں پر گر پڑنا۔ تَرَامَى بين ذِرَاعَيهِ: کے بازوؤں میں آپڑنا۔ عاطفة ترامى به عَهْدُهَا: ایک احساس جسے اس نے عرصہ دراز پہلے جانا تھا۔ تَرَامَى الينا أن: ہمیں خبر ملی ہے کہ...... اِرْتَمَى علي: خود کو (بستر، زمین پر گرانا)۔ — علي: کسی پر گر پڑنا، پر اپنے آپ کو پھینکنا، پٹکنا، پٹخنا — في: اپنے آپ کو میں گرانا، میں اچانک یا یکا یک کود پڑنا۔ —: منہ کے بل گرا ہونا۔ — علي: پر پاؤں پسار کر بیٹھنا یا لیٹنا۔ ارتمى اِلي الأرض: زمین پر گر پڑنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا۔ رَمْي: پھینکنے، پٹکنے، پٹخنے وغیرہ کا عمل، تیر چلانا، بندوق چلانا، گولی مارنا۔ رميُ الحَرْبَة: نیزہ اندازی۔ رَمْيُ القُرْص: چکر پھینکنا۔ اعدام رَمْيًا بالرصاص: گولی مار دستہ کے سامنے گردن زدنی۔ رَمْيَة: گھوڑے پر سے گرنا یا گرانا، پچھاڑنا یا پچھڑنا، پھینکنا، اچھالنا، پٹکنا، پٹخنا، فائر، گولی چلنا یا چلانا۔ رُبَّ رمية من غير رامٍ: کئی نیزہ یا تیر اندازیاں کسی ماہر نشان باز کے بغیر ہوتی ہیں۔ رَمِيَّة جمع رَمَايَا: شکار کا جانور جو یا تو پہلے مارا جا چکا ہو یا جس پر فائر کیا جائے۔ مَرْمًى جمع مَرَامٍ: نشانہ، مقصد، غرض، گول (goal)، (بندوق کی) مار، پہنچ، رسائی، حد۔ حَارِسُ المَرْمَى: گول کیپر۔ مَرْمَى النظر: تصور کی رسائی، تصور کا میدان۔ تَرَامٍ: پھیلاؤ، وسعت۔ تَرَامِي الأطراف: دور تک پھیلی ہوئی وسعت، پھیلاؤ۔ رَامٍ جمع رُمَاة: پھینکتا ہوا، پھینکنے والا، زور سے پھینکنے والا، نشانہ باز، رائفل بردار۔ الرَّامِي: برج قوس، نواں برج۔ سهمُ الرامي: تیر کی شکل کا ایک شمالی برج۔ رامِيُ اللَهَب: ایک ہتھیار جو جلتے ہوئے ایندھن کی دھار پھینکتا ہے۔ Flame thrower۔ مُتَرَامٍ: دور، دور تک پھیلا ہوا۔ مُتَرَامِيُ الاطراف: دور تک پھیلا ہوا عظیم، جسیم، بڑا۔ رَامِيَة: چینی پٹ سن۔

رن: ۱۔ رَنَّ - رَنِيْنًا و اَرَنَّ: بلند آواز سے رونا۔ — القوسُ: کمان کا آواز کرنا۔ رَنَّنَ ترنينًا و تَرْنِيْنَةً: چیخنا، چلانا۔ — القوسَ: کمان سے آواز نکلوانا۔ الرَّنَن: گرمی کے موسم میں پانی میں بولنے والا ایک جانور۔ الرَّنَّة: آواز، کمان کی آواز خاص طور پر۔ الرَّنِين: آواز، غمگین آواز۔ قوسٌ مُرِنَّة و مِرنان: بہت بجنے والی یا بہت آواز کرنے والی کمان۔

۲۔ رَنَّ - رَنِيْنًا و اَرَنَّ اليه: کسی کی طرف کان لگانا۔ و اِسْتَرَنَّ لِكَذَا: سے کھیلنا، شغل کرنا، سے دل بہلانا۔

۳۔ الرَّنَن: تھوڑا پانی۔ الرُّنَّى: تمام مخلوق۔

○ رَنَّ - رَنِيْنًا: رونا، چیخنا، چلانا، گریہ وزاری کرنا، ماتم کرنا، بجنا، گونجنا۔ رَنَّة جمع رَنَّات: زور کی چیخ، آواز، گونج، باز ارتعاش، صدائے بازگشت۔ رَنِين: ماتم، گریہ زاری، آواز، باز ارتعاش، گونج، صدائے بازگشت، بجنا، کمک۔ رَنَّان و مِرْنَان: بجتا ہوا، گونجتا ہوا، گونج پیدا کرنے والا، گونج دار، گونجنے والا، آواز کا لوٹانے والا۔ رَنَّانَة: سر ملانے کا دو شاخہ، سرود شاخہ۔

رنأ: رَنَأَ - رَنْئًا: آواز کرنا۔ — اليه: کی طرف دیکھنا۔ — في مشيته: سست چلنا۔

رنب: الأَرْنَب جمع أَرَانِب (ح): خرگوش (مذکر و مؤنث دونوں کے لئے) یہ جانور بزدلی میں ضرب المثل ہے، ایک قسم کا زیور۔ — واليَرْنَب (ح): چھوٹی دم کا ایک جنگلی چوہا۔ الأَرْنَبَة جمع اَرَانِب: ارنب کا واحد۔ ایک خرگوش، ناک کا سرا۔ کہتے ہیں: جَدَعَ فلانٌ ارنبةَ فلانٍ: فلاں شخص نے فلاں شخص کی ناک کاٹ ڈالی یعنی اسے بہت ذلیل ورسوا کیا۔ نسيجٌ مُؤَرْنَبٌ و مُرَنَّبٌ: وہ کپڑا جسکی بناوٹ میں خرگوش کی اون شامل ہو۔ ارضٌ مُرْنِبَة و مُؤَرْنِبَةٌ و مُؤَرْنَبَةٌ: وہ زمین جس میں خرگوش بہت ملیں۔ كساءٌ مُرَنْبَانِيٌّ: خرگوش کے رنگ کا لباس۔

○ اَرْنَب مونث جمع اَرَانِب: بڑا خرگوش، خرگوش۔ اَرْنَبٌ هِنْدِيّ: امریکی چوہا (guineapig)۔ اَرْنَبَة: مادہ خرگوش، ہرنی۔ ارنبة الأنف: ناک، ناک کا سرا، ناک کی نوک، (جانور کی) تھوتھنی۔

رنح: ۱۔ رَنَّحَ تَرْنِيحًا ہُ: کو کمزور کرنا۔ کہا جاتا ہے: ضربتُهُ حتى رَنَّحتُهُ: میں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بیہوش ہو گیا۔ — تِ الريحُ الغُصنَ: ہوا کا ٹہنی کو جھکانا۔ رُنِّحَ عليه: بھاگنے، خوف یا غم کی وجہ سے ست و کمزور ہو کر خمیدہ ہو جانا۔ صفت: مُرَنَّح: پر غشی طاری ہونا۔ تَرَنَّحَ و اِرْتَنَحَ: نشہ وغیرہ کی وجہ سے جھک جانا۔ الرُّنَح: دوران سر، چکر۔

۲۔ تَرَنَّحَ و اِرْتَنَحَ عليه: سے گستاخی کرنا۔ کہا جاتا ہے: تَرَنَّحَ بالكلام عليَّ جهلاً: اس نے جہالت سے میرے ساتھ گستاخی کی۔

۳۔ المُرَنَّحَة: جہاز کا اگلا حصہ۔

○ رَنَّحَ ہُ: کو سرگراں کرنا، لڑکھڑانا، ڈگمگانا، بوکھلا دینا، چکرا دینا، بدحواس کر دینا۔ — ہ: کو ہلانا جلانا۔ رَنَّحَ اَعْطَافَهُ: کے احساسات کو ہیجان میں لانا، ابھارنا کو، ہیجان زدہ کرنا۔ تَرَنَّحَ: لڑکھڑانا، ڈگمگانا، لڑکھڑا کر چلنا، چکرانا، گرنے کو ہونا، ہلنا جلنا، جھولنا، کانپنا۔ تَرَنُّحُ اعطافه: سستی اور ہچکچاہٹ کے بعد کوئی کام اعتماد اور تیزی سے کرنے لگنا، وجد کی حالت میں

ہو جانا، بے خود ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا۔
مَرْنَخَة: جہاز وغیرہ کا اگلا حصہ۔

رنخ: رَنَخَ - رَنْخًا: سست ہونا۔ رَنَّخَ ہٗ: کو لاڈ سے بگاڑنا، کی حد سے زیادہ ناز برداری کرنا، کو بگاڑنا، کی عادتیں خراب کرنا۔ تَرَنَّخَ بہ: کسی چیز سے چمٹنا، ٹکنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: تَرَنَّخَ فلانٌ: فلاں شخص کو بارش نے بھگو دیا۔

رند: الرَّنْد (ن): آس کے مشابہ ایک قسم کا خوشبودار پودا، کھجور کی پتیوں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی گون۔
ـ رَنْدَحَ: (شعر) کی تقطیع کرنا۔

رنع: ا۔رَنَعَ - رُنُوعًا: لاغر و دبلا ہونا۔ ـ لونُہٗ: کا رنگ متغیر ہونا۔
۲۔رَنَعَ - رُنُوعَاتِ الدابَّۃُ: جانور کا سر سے مکھیاں اڑانا۔ ـ الرجلُ: کھیلنا۔ رَنَعَ رأسَہٗ: اپنے سر کو ہلانا۔ المَرْنَعَۃ: کھیل میں آوازیں۔
۳۔المَرْنَعَۃ: کشادگی، وسعت، باغ، ارزانی و فراخی۔ کہا جاتا ہے: اِنَّ فی المرنعۃ لِکلِّ قومٍ مَقْنَعَۃ: ہر قوم کے لئے ارزانی و فراخی میں دولت ہے۔

رنف: ا۔اَرْنَفَ البعیرُ: اونٹ کا چلتے ہوئے سر ہلانا۔ ـ الرجلُ: تیز چلنا۔
۲۔اَرْنَفَتِ الناقۃُ باُذُنَیْھا: اونٹنی کا تھکن کی وجہ سے کان ڈھیلے کرنا۔ الرَّانِف: انسان کا ڈھیلا سرین۔ ـ من کل شیءٍ: ہر چیز کا کنارا، سرا۔ الرانِفۃ جمع رَوَانِف: ناک کا کنارا، کان کی نرم ہڈی کا کنارا، سرین کا وہ حصہ جو بیٹھتے وقت زمین پر لگتا ہے۔ ـ من الکُمِّ: آستین کا سرا۔ کہا جاتا ہے: عَلَوْا رَوَانِفَ الآکام: وہ ٹیلوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔

رنق: ا۔رَنَقَ - رَنْقًا و رُنُوقًا و رَنِقَ - رَنَقًا الماءُ: پانی کا گدلا ہونا۔ صفت: رَنْق و رَنِق و رَنَق۔ رَنَّقَ الماءَ: پانی کو گدلا کرنا۔ اَرْنَقَ الماءَ: پانی کو گدلا کرنا۔ تَرَنَّقَ الماءُ: پانی کا گدلا ہو جانا۔ الرَّنْق (مص): گدلا پانی، جھوٹ۔ الرَّنْقَۃ جمع رِنَاق: مٹی ملا ہوا پانی یا حوض میں تھوڑا سا بچا ہوا گدلا پانی۔ التَّرْنُوق و التُّرْنُوق و التَّرنوقاء و التُّرنوقاء: نہروں کا کیچڑ، پانی کے بہاؤ میں خشک شدہ مٹی۔
۲۔رَنَّقَ الماءَ: پانی کو صاف کرنا۔ الرَّوْنَق: چمک دمک، حسن و زیبائش۔
۳۔رَنَّقَ الطائرُ: پرندے کا بغیر اڑے بازوؤں کو پھڑپھڑانا۔ ـ اللواءُ: جھنڈے کا ہلنا۔ ـ تِ السفینۃُ: کشتی کا اپنی جگہ گھومنا اور نہ چلنا۔ ـ الرجلُ: حیران ہونا۔ ـ النظرَ الیہ: کو دیر تک دیکھنا۔ ـ اللواءَ: حملے کے لئے جھنڈے کو جنبش دینا۔
۴۔رَنَّقَ القومُ بالمکان: لوگوں کا کسی جگہ اقامت کرنا، ٹھہرنا۔ کہا جاتا ہے: رَنِّقْ و لا تَعْجَلْ: ٹھہر اور انتظار کر۔ الرَّنْقَاء جمع رَنْقَاوَات مِن الطیر: انڈوں پر بیٹھا ہوا پرندہ عام لوگ اسے القرقۃ کہتے ہیں۔
۵۔رَنَّقَ النومُ فی عَیْنَیْہِ: نیند کا آنکھوں میں بھر آنا۔ ـ تِ المَنِیَّۃُ منہ: موت کا کسی کے قریب ہونا۔
۶۔رَنَّقَ جناحُ الطائر: بازو ٹوٹنے سے پرندہ کا گرنا۔ ـ تْ عَیْنَاہُ: بھوک وغیرہ سے نگاہ کا پست ہونا۔ ـ جسمُہٗ او رأیُہٗ: کمزور جسم یا رائے ہونا۔ اَرْضٌ رَنْقَاءُ جمع رَنْقَاوَات: بنجر زمین۔
رَنَّقَ ہٗ: پانی کو گدلا کرنا، (نیند کا) (آنکھوں) کو دھندلا کرنا، دھندلانا۔ ـ ٹھہرنا، قیام کرنا، رکنا۔ ـ نحو: کو یا کی طرف دیکھنا، پراچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، جھلکتی ہوئی نظر ڈالنا۔ رَنَّقَ النظرَ اِلی: کی طرف دیکھتا رہنا، کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ رَنْق: گدلا (پانی)۔ رَوْنَق: سحر، دلربائی، کشش، چمک دمک، آب و تاب، حسن، خوبصورتی۔

رنک: الرَّنْک: شاراتُ الرنک: رتبہ کے نشان جو چھوٹی ڈھالوں یا اشراف کے محلوں کی دیواروں پر بناتے تھے۔ الرَّنْکہ (ح): بحر اوقیانوس شمالی میں پائی جانے والی ایک قسم کی مچھلی، جس کا شکار رودبار انگلستان میں کیا جاتا ہے۔

رنم: رَنِمَ - رَنِیمًا و رَنَمًا و تَرَنَّمَ: خوش آوازی سے گانا۔ الرَّنَم و الرَّنَمَۃ (مو): آواز، راگ، ترنم۔ الرُّنُم: خوش آواز گانے والیاں (کہا جاتا ہے: عودٌ رُنُمٌ: خوش آواز بربط) ہوشیار چھوکریاں۔ الرَّنَمَۃ: ایک قسم کی نباتات۔ التَّرْنِیمَۃ (مو): گیت، ترانہ، حمد، بھجن۔
رَنَّمَ و تَرَنَّمَ ب: (کوئی گیت) گانا، (گیت) لحن سے پڑھنا، خاص لہجہ میں ادا کرنا، گا کر ادا کرنا، کوئی چیز یکساں لہجہ سے زبانی پڑھنا، (کوئی چیز) گنگنانا، الاپنا۔ تَرْنِیمَۃ: حمد، بھجن، ترانہ، گیت، ایک قسم کا گنگنانا کلام سنانا، چھوٹا قصہ جو یکساں آواز میں پڑھا جائے، چھوٹا گیت۔

رنا: ا۔رَنَا - رُنُوًّا و رَنًا الیہ و لہٗ: کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنا۔ رَنَّی الحسنُ فلانًا: حسن کا کسی کو تعجب میں ڈال کر دیکھنے پر اکسانا۔ رَانَی ہٗ: کا مقابلہ کرنا (جیسے یہ کہنا: لہٗ شرفٌ یُرانی الکواکبَ: وہ شرف میں ستاروں سے مقابلہ کرتا ہے یعنی ستاروں سے زیادہ لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے) کی مدارات کرنا۔ اَرْنَی الحسنُ فلانًا: حسن کا کسی کو تعجب میں ڈال کر دیکھنے پر اکسانا۔ ـ ہٗ اِلی الطاعۃ: کو اطاعت پر لگانا اور پھر اس کا اطاعت پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ تَرَنَّی: محبوب کی طرف مسلسل دیکھنا۔ الرَّنَا (مص): وہ خوبصورت چیز جس کو دیر تک دیکھا جائے، خوبصورتی، حسن، جمال۔ الرَّنَاء و الرَّنُوّ: خوبصورت چیز کی طرف پسند و حیرت کی نظر سے دیکھنے والا۔ کہا جاتا ہے: ھو رَنُوُّ الأمانی: وہ ایسی خواہشات والا ہے جس کی اسے توقع ہے۔
۲۔رَنَا - رُنُوًّا و رَنًا الرجلُ: دل کی مشغولی اور خواہشات کے غلبہ کے ساتھ کھیل کود میں لگنا۔ رَنَّی تَرْنِیَۃً: گانا۔ ـ الیہ: کا مشتاق ہونا۔ الرُّنَاء: خوبصورت آواز، طرب۔
۳۔رَنَا - رُنُوًّا و رَنًا و تَرَانَی عنہ: سے غافل ہونا، پر توجہ نہ دینا، میں دلچسپی نہ لینا، سے بے سروکار ہونا۔
رَنَا - رُنُوًّا اِلی: کی طرف دیکھنا، کو گھورنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ رَنَّی و اَرْنَی ہٗ: کو پسند آنا، کو بہت اچھا لگنا، کو خوش کرنا، مسرور، شاد یا محظوظ کرنا۔

رھب: ا۔رَھِبَ - رَھْبَۃً و رُھْبًا و رَھَبًا و رُھْبَانًا و رَھَبَانًا: ڈرنا۔ کہا جاتا ہے: لم اَرْھَبْ بِلَکَ: میں نے تجھ میں کوئی پریشان کرنے والی بات نہیں دیکھی۔ اَرْھَبَ ہٗ: کو خوف زدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَرْھَبَ عنہ الناسَ بأسُہٗ و نجدتُہٗ: اس کی قوت اور شجاعت نے لوگوں کو اس سے ڈرنے پر اکسایا، ڈرایا۔ تَرَھَّبَ: راہب ہونا، عابد ہونا۔ ـ ہٗ: کو دھمکی دینا۔ اِسْتَرْھَبَ ہٗ: کو خوف دلانا۔ الرَّھْبَۃ و الرُّھْبَی و الرَّھْبَی و الرَّھْبَاء: خوف، ڈر۔ الرَّاھِب (فا) جمع رُھْبَان: ڈرنے والا، شیر، لوگوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت کے لئے گرجا میں عزلت نشین، راہب۔ الرَّاھِبَۃ جمع رَاھِبَات و رَوَاھِب: راہب کا مؤنث، راہبہ، خوف دلانے کی حالت۔ الرَّھِیب و المَرْھُوب: جس سے ڈرا جائے، خوفناک، شیر۔ الرُّھْبَان جمع رَھَابِین مؤنث رُھْبَانَۃ جمع رُھْبَانَات: راہب۔ الرَّھْبَان جمع رَھَابِین و رَھَابِنَۃ و رَھْبَانُون مؤنث رَھْبَانَۃ جمع رَھْبَانَات: بہت خوف کرنے والا۔ الرَّھْبَنَۃ: راہبوں کا طریقہ اختیار کرنا۔ الرَّھْبَانِیَّۃ و الرُّھْبَانِیَّۃ: راہبوں کا طریقہ۔ الرَّھَبُوت و الرَّھَبُوتَی: سخت خوف۔ الإرْھَابِیّ: دہشت پسندانہ، دہشت پسند۔ الحُکْم الإرْھَابِیّ:

دہشت پسندی پر مبنی نظام۔ المَرَاهِب: ہولناکیاں، خوفناکیاں۔

۲۔ رَهَبَ الحملُ: پیٹھ کی کمزوری کی وجہ سے اونٹ کا اٹھنے کی کوشش کرکے پھر بیٹھ جانا۔ رُهِبَتِ الناقةُ: سفر کا اونٹنی کو تھکا دینا صفت مذکر و مؤنث: رَهْبٌ جمع رِهَابٌ۔ اَرْهَبَ: تھکے ماندے اونٹ پر سوار ہونا۔ الرَهْب جمع رِهَاب من الابل: سفر سے تھکا ماندہ اونٹ، باریک پتلا پھل۔

۳۔ اَرْهَبَ: آستین لمبی کرنا۔ الرُهْب: آستین۔

۴۔ رَهْبَلَ: غیر مفہوم کلام کہنا۔

۵۔ تَرَهْبَلَ: تیز چال چلنا۔ الرَهْبَلَة: تیز چال۔

ⓒ رَهِبَ - رَهَبًا و رُهْبًا و رَهْبَةً: خوف زدہ ہونا، ڈرنا۔ ـــ ہ: سے ڈرنا، دہشت کھانا۔ رَهِبَ جانبہ: سے ڈرنا۔ رَهَّبَ ہ: کو ڈرانا، خائف کرنا، دہشت زدہ کرنا، گھبرا دینا، دھمکانا۔ اَرْهَبَ ہ: کو ڈرانا، خائف کرنا، دہشت زدہ کرنا، گھبرا دینا، دھمکانا، خوف زدہ کرنا، دہشت پھیلا کر مرعوب کرنا۔ تَرَهَّبَ ہ: کو دھمکانا۔ ـــ زاہد بن جانا، عابد بن جانا، جوگی بن جانا، درویش بنجانا، تارک الدنیا ہو جانا، راہب بن جانا، راہبانہ زندگی اختیار کرلینا۔ رَهْبَة: خوف، ڈر، ہول، دہشت، ہیبت، رعب، جلال۔ رَهْبَى و رُهْبَى: خوف، ڈر۔ رَهَبُوت: سخت خوف، دہشت، ہول، ہیبت۔ رَهِيب: بھیانک، خوفناک، مہیب، دہشت ناک، ڈراونا، ہولناک، سنجیدہ، پر رعب با ضابطہ۔ تَرْهِيب: دھمکی، ڈر۔ اِرْهَاب: دھمکی، ڈرانا، دھمکی دینا، دہشت، ہیبت، سخت خوف، دہشت پسندی، توڑ پھوڑ، تخریب کاری۔ اِرْهَابِي: دہشت پسندانہ، دہشت پسند، تخریبی، جمع اِرْهَابِيُّون: دہشت پسند۔ تَرَهُّب: رہبانیت، خانقاہی زندگی، راہبانہ زندگی۔ رَاهِبَة جمع راهبات: گوشہ نشین عورت، تارک الدنیا عورت، خانقاہ میں رہبانیت کی زندگی گذارنے والی عورت، بپتسما کرنے والی، نن (nun)۔ مَرْهُوب: ہولناک، خوفناک، دہشتناک، ناگوار۔

ⓒ تَرَهْبَنَ: زاہد بن جانا، عابد بن جانا، تارک الدنیا ہو جانا، جوگی بن جانا، درویش بن جانا، راہبانہ یا خانقاہی زندگی اختیار کرلینا۔ رَهْبَنَة و رَهْبَانِيَة: رہبانیت، خانقاہی زندگی، راہبانہ نظام، عبادت گزاروں کا مجمع۔

رهج: اَرْهَجَ: غبار اڑانا۔ ـــ بين القوم: لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا۔ ـــ ت السماءُ: آسمان کا برسنے کے قریب ہونا۔ الرَهَج: اڑایا ہوا غبار۔ الرَهْج: اڑایا ہوا غبار، فتنہ وفساد، شور وشغب۔ واحد رَهْجَة: پانی سے خالی بادل۔ الرَهْوَجَة: ایک قسم کی چال۔

رهد: ۱۔ رَهَدَ - رَهْدًا ہُ: کو بہت باریک پیسنا۔ رَهَدَ: بڑی حماقت کرنا۔ الرَهِيد: نرم و نازک، ارزان۔ رَهَادَةُ العيش: زندگی کی خوشحالی۔ اَمْرٌ مَرْهُودٌ: غیر محکم امر۔ کہا جاتا ہے: تركتهم مَرْهُودِينَ: میں نے انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ انہوں نے کسی معاملہ کا پختہ ارادہ نہیں کیا تھا۔ الرَهْوَدِيَة: نرمی، مہربانی۔

۲۔ رَهْدَنَ: دیر لگانا، رکنا۔ ـــ في مشيه: چلنے میں گھومنا۔ الرَهْدَن و الرُهْدَن و الرِهْدَن جمع رَهَادِن و رَهَادِنَة: بزدل، احمق (ح) چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ۔ الرَهْدُون: بہت جھوٹا۔

رهره: ۱۔ رَهْرَهَ رَهْرَهَةً مائدتَہٗ: فیاضی سے دسترخوان کو پھیلانا اور فراخ کرنا۔ تَرَهْرَهَ جسمُہٗ: آسودہ حالی کی وجہ سے کسی کے جسم کا سفید و نرم و نازک ہونا۔ جسمٌ رَهْرَهٌ و رَهْرَاهٌ و رُهْرُوهٌ: نرم و نازک اور سفید جسم۔

۲۔ تَرَهْرَهَ السرابُ: سراب کا برابر چمکنا۔ الرَهْرَهَة: چہرہ کی چمک دمک، خوشروئی۔ طستٌ رَهْرَهٌ و رَهْرَاهٌ: چوڑا اتھلا طشت۔ ماءٌ رَهْرَاهٌ و رُهْرُوهٌ: صاف پانی۔

رهز: رَهَزَ - رَهْزًا و رَهَزَانًا: تردد کی حالت میں حرکت کرنا۔ اِرْتَهَزَ لِلامرِ: کسی معاملہ پر خوشی سے جھومنا۔

رهس: رَهَسَ - رَهْسًا الشيءَ: کو سخت روندنا۔ تَرَهَّسَ الشيءُ: چیز کا ہلنا، مضطرب ہونا۔ اِرْتَهَسَت رِجلا الدابّةِ: جانور کی ٹانگوں کا آپس میں رگڑ کھانا۔ ـــ القومُ: لوگوں کا بھیڑ کرنا۔ ـــ الجرادُ: ٹڈیوں کا دل بادل ہونا۔ ـــ الوادي: وادی کا بھرنا۔

رهش: ۱۔ تَرَهَّشَ الرجلُ: کرم و سخاوت سے کام لینا۔ ـــ ت الناقةُ: اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔ الرُهْشَة: سخاوت، کرم، حیا۔ ناقةٌ رَهِيشَةٌ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔

۲۔ اِرْتَهَشَ الرجلُ: لرزنا، کانپنا۔ ـــ القومُ: قوم میں جنگ چھڑنا۔ ـــ الفرسُ: گھوڑے کے کھروں کا آپس میں ٹکرانا۔ ـــ تِ القوسُ: کمان کا نرم اور ڈھیلی ہونا۔ الرَهْش: جانور کی اگلی ٹانگوں کا آپس میں رگڑ کھانا۔ الرَوَاهِش واحد رَاهِش و رَاهِشَة (ع ا) جانور کے بازوؤں کے اندر کی رگیں، ہاتھ کی ہتھیلی کی ظاہری رگیں۔ الرَاهِشَان (ع ا): جانور کے بازوؤں کی اندر کی دو رگیں۔ الرَهِيش: پتلا، کمزور، باریک پھل، پتلا ہلکا تیر، کم گوشت والا۔ ـــ من التراب: گرنے والی مٹی۔

رهص: ۱۔ رَهَصَ - رَهْصًا الشيءَ: کو زور سے نچوڑنا۔

۲۔ رَهَصَ - رَهْصًا الفرسَ: گھوڑے کے کھر کو زخمی کرنا۔ ـــ الصيدَ: شکار کو کمزور دست کرنا۔ رَهِصَ - رَهَصًا و رُهِصَ الفرسُ: گھوڑے کے کھر کا زخمی ہونا۔ اَرْهَصَ الفرسَ: گھوڑے کے کھر کو زخمی کرنا۔ الرَهْصَة: گھوڑے کے کھر کا زخم۔ الرَهِيص من الخيل: زخمی کھر والا گھوڑا۔ خُفٌّ رَهِيصٌ: اونٹ کا پتھر سے زخمی کھر۔ الرَوَاهِص من الحجارة واحد رَاهِصَة: کھر کو زخمی کرنے والے پتھر۔

۳۔ رَهَصَ - رَهْصًا الحائطَ: دیوار پر پہلا ردہ رکھنا۔ اَرْهَصَ الحائطَ: دیوار پر پہلا ردہ رکھنا۔ ـــ الشيءَ: کی بنیاد ڈالنا، کو ثابت و پیوستہ کرنا۔ تَرَاهَصَت الصخورُ: چٹانوں کا آپس میں پیوستہ ہونا۔ الرَهْصُ من الحائط: دیوار کا پہلا ردہ، دیوار بنانے کی مٹی۔ الرَهَّاص: مٹی گارا بنانے والا۔ اسدٌ رَهِيصٌ: اپنی جگہ سے نہ ٹلنے والا شیر۔ الرَوَاهِص واحد رَاهِصَة (ط ا): مضبوط جمی ہوئی چٹانیں۔ المَرْهَصَة جمع مَرَاهِص: درجہ، رتبہ۔

۴۔ رَهَصَ - رَهْصًا ہُ: کو ملامت کرنا، سے جلدی کرانا۔

۵۔ رَاهَصَ غريمَہٗ: قرضدار کے گھر کی نگرانی کرنا۔

۶۔ اَرْهَصَ ہُ اللّٰہُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بھلائی کی کان بنانا۔

رهط: ۱۔ رَهَطَ - رَهْطًا اللقمةَ: بڑا لقمہ لینا۔ کہا جاتا ہے: هو يرهط: وہ بہت کھاتا ہے۔ رَهَّطَ: بہت کھانا۔ ـــ اللقمةَ: بڑا لقمہ لینا۔

۲۔ رَهَطَ الرجلُ: گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہنا اور نہ اترنا، گھر سے باہر نہ نکلنا، اندر ہی رہنا۔

۳۔ اِرْتَهَطَ القومُ: قوم کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الرَهْط و الرَهَط جمع اَرْهُط و اَرْهَاط و جمع اَرَاهِط و اَرَاهِيط: آدمی کی قوم و قبیلہ، تین سے دس تک کا گروہ جس میں کوئی عورت نہ ہو۔ اس کا واحد نہیں۔ (اگر رہط کی طرف عدد کی اضافت کریں تو اس سے اشخاص و افراد مراد ہوتے ہیں۔ جیسے عشرون رَهْطًا: بیس شخص۔ کہا جاتا ہے: نحنُ ذو رَهْطٍ: ہم اکٹھے

ہیں)، دشمن۔

۴۔ الرِهَاط: گھر کا سامان۔ الرُهطَة و الرُهَطَاء و الراهِطَاء جمع رَهَاطَى من جحرة اليَربوع: جنگلی چوہے کا وہ سوراخ جس سے وہ مٹی نکالتا ہے۔

○ رَهَطَ ۔ رَهطًا: بڑے بڑے نوالے کھانا، حریصانہ طور پر ہڑپ کرجانا۔ رَهط و رَهَط جمع أرهاط و أرهُط و أراهط و أراهيط: (لوگوں کا) گروہ، منڈلی، جتھا، ٹولی۔ رَهط جمع رِهَاط: چمڑے کا لنگوٹ یا لنگوٹی۔

رهف: ۱۔ رَهَفَ ۔ رَهفًا السيفَ: تلوار کو باریک کرنا، پتلی کرنا۔ رَهُفَ ۔ رَهَافَةً و رَهَفًا: باریک و پتلا ہونا صفت: رَهِيفٌ۔ أرهَفَ السيفَ: تلوار کی دھار کو پتلی اور تیز کرنا۔ الرَهِيف: پتلا، پتلی اور تیز کی ہوئی دھار۔ مُرهَفُ الجسم (مفع): دبلے پتلے بدن والا۔ سيفٌ مُرهَفٌ: تیز باریک دھار کی تلوار۔ خَصرٌ مُرهَفٌ: پتلی دبلی کمر۔ فرسٌ مُرهَفٌ: پچکے ہوئے پیٹ اور قریب قریب پسلیوں والا گھوڑا (اور یہ عیب ہے)۔

۲۔ أرهَفَ بالكلام: فی البدیہ کہنا۔

○ رَهُفَ ۔ رَهَافَةً: پتلا دبلا ہونا، (تلوار کا) تیز ہونا۔ رَهَفَ ۔ رَهفًا و أرهَفَ ه: کو پتلا کرنا، باریک کرنا۔ ـــ ه: کو تیز کرنا، (بالخصوص مجازا)۔ أرهَفَ الأذُنَ لفلان: کسی کی باتیں سننے کے لئے اپنے کان کھڑے کرنا۔ أرهَفَ السمعَ ل/الى: کو بغور سننا، کی باتوں پر کان لگانا۔ رَهِف: پتلا، باریک۔ رَهِيف: پتلا، باریک، نازک، دبلا پتلا، تیز، تیز کیا ہوا۔ إرهَاف: تیز کرنا۔ مُرهَف: پتلا، دبلا، عمدہ، تیز کیا ہوا، تیز۔ مُرهَفُ الحِسّ: لطیف، ذکی حس، حساس۔

رهق: ۱۔ رَهِقَ ۔ رَهَقًا: ظلم کرنا، بداعمال ہونا، جھوٹ بولنا۔ رَهَّقَ هُ: کو برائی سے متہم کرنا۔ أرهَقَ هُ: کو طاقت سے زیادہ کام پر اکسانا۔ ـــ هُ ظلمًا: کو ظلم میں مبتلا کرنا۔ ـــ هُ إثمًا: کو گناہ پر اکسانا۔ ـــ هُ عُسرًا: کو تکلیف دینا۔ کہا جاتا ہے: لا تُرهِقني لا أرهَقَكَ اللهُ: تم مجھ پر سختی نہ کرو اللہ تعالی تم پر سختی نہ کرے گا۔ الرَهَق (مص): گناہ، تہمت، کسی کو ایسے کام پر اکسانا جو اسکی طاقت سے زیادہ ہو۔ الرَهِيق: شراب۔ المُرهَق: سخت تکلیف میں پھنسا ہوا۔ المُرَهَّق (مفع): خراب، جس کو دین میں متہم کیا گیا ہو۔

۲۔ رَهِقَ ۔ رَهَقًا: ہلکا ہونا، بے وقوف ہونا، صفت: رَهِق۔ الرَهَق (مص): جہالت، کم عقلی۔ المُرَهَّق (مفع): کم عقل، جاہل۔

۳۔ رَهِقَ ۔ رَهَقًا: جلدی کرنا۔ ـــ السفرُ: سفر کا قریب و نزدیک ہونا۔ کہا جاتا ہے: رَهِقَتِ الكلابُ الصيدَ: کتوں نے شکار کو جالیا۔ راهَقَ الغلامُ: لڑکے کا بلوغ کے قریب پہنچنا۔ صفت: مُراهِق۔ أرهَقَ هُ: کو پالینا۔ ـــ زيدًا ان يصلّي: زید سے نماز پڑھنے میں جلدی کرانا۔ ـــ الصلاةَ: نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرنا۔ الرِهاق و الرُهاق: قریب۔ کہا جاتا ہے: كانوا رِهاقَ مِائةٍ: وہ سو کے قریب تھے۔ الرَهَقَى: ایک قسم کی دوڑ۔ کہا جاتا ہے: هو يعدو الرَهَقَى: وہ اپنے طالب کو جالینے کے لئے دوڑتا ہے۔ المُرهَق: قتل کے لئے گرفتار کیا ہوا۔ المُرَهَّق: سخی، فیاض۔ المُراهِق: بلوغت کے قریب پہنچا ہوا لڑکا۔ کہا جاتا ہے: صَلَّى الصلاةَ مُراهِقًا: اس نے وقت ختم ہونے کے قریب نماز پڑھی۔

۴۔ الرَيْهُقان (ن): زعفران۔

○ رَهِقَ ۔ رَهَقًا/ ه: سے آملنا، کو جالینا۔ راهَقَ ه: کسی عمر کے قریب پہنچنا، بلوغت کیقریب پہنچنا، عنفوان شباب میں ہونا، اٹھتی جوانی میں ہونا۔ أرهَقَ ه ه: کو (مشکلات وغیرہ) سے گزارنا، کو (تکلیف وغیرہ) برداشت کرانا۔ ـــ ه ب: پر کا بوجھ ڈالنا۔ ـــ ه: کو پچھاڑنا، زیر کرنا، پر بوجھ ڈالنا، کو بے آرام کرنا، بے چین کرنا۔ أُرهِقَ جَذبًا: کو زور سے کھینچا۔ مُراهَقة: سن بلوغ، بلوغت، جوان ہونا۔ إرهاق: دباؤ، خاتمہ، (کام وغیرہ کا) بھاری بوجھ۔ مُراهِق: نوجوان۔ مُرهِق: دشوار، سخت، گران (بوجھ، گرمی)۔

رهك: رَهَكَ ۔ رَهكًا الشيءَ: چیز کو باریک پیسنا، صفت مفعولی: رَهِيك و مَرهُوك۔ ـــ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا، رہنا۔ إرتَهَكَ: چلنے میں سست اور ڈھیلا ہونا۔ الرَهَك: نیک عمل۔ الرَهَكَة: کمزوری۔ ـــ والرَهَكَة من الرجال او الابل: کمزور آدمی یا اونٹ، جس میں نہ طاقت ہو نہ کوئی بھلائی۔

رهل: ۱۔ رَهِلَ ۔ رَهَلًا: ڈھیلے گوشت والا اور پھولا ہوا ہونا۔ صفت: رَهِل۔ رَهَّلَ و أرهَلَ هُ النومُ: نیند کا کسی کو سست و ڈھیلا کرنا۔ تَرَهَّلَ: ڈھیلا ہونا۔ الرَهَل: ڈھیلا پن اور پھولا ہوا ہونا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ فيه رَهَل: فلاں شخص ڈھیلا اور پھولا ہوا ہے۔ المُتَرَهِّل (طب): ڈھیلے بدن والا۔

۲۔ الرِهل: پتلا پتلا بادل۔

○ رَهِلَ ۔ رَهَلًا: نرم ہونا، ڈھیلا ڈھالا ہونا، بہت ہی پھولا ہوا ہونا، ابھرا ہوا ہونا، (جسم، گوشت کا) چربیلا ہونا، موٹا ہونا، فربہ ہونا، بھرا ہوا ہونا۔ رَهِل: موٹا، فربہ، چربیلا، نرم، ڈھیلا ڈھالا، پلپلا۔ تَرَهُّل: موٹاپا، فربہی۔ مُتَرَهِّل: موٹا، فربہ، چربیلا، بہت ہی پھولا ہوا، ابھرا ہوا، نرم، پلپلا، ڈھیلا ڈھالا۔

رهم: ۱۔ أرهَمَتِ السماءُ: آسمان کا پیہم نرم ہلکی بارش برسانا۔ الرِهمَة جمع رِهَم و رِهَام: پیہم ہلکی بارش۔ الأرهَم: زیادہ زرخیز۔ المَرهَم جمع مَراهِم (طب): مرہم۔ مكانٌ مَرهُوم: وہ جگہ جہاں پیہم ہلکی بارش ہوئی ہو۔

۲۔ الرُهَام: غیر شکاری پرندہ، بڑی تعداد۔ الرَهَام و الرَهُوم: دبلی بکری۔

○ رِهمَة جمع رِهَم و رِهَام: پھوہار، ترشح، خوشگوار دیرپا بارش۔ مَرهَم جمع مَراهِم: مرہم، پھاہا، کریم، کولڈ کریم، بالوں میں لگانے کا خوشبودار روغن (pomade)۔

رهن: ۱۔ رَهَنَ ۔ رَهنًا الشيءُ: دائم و ثابت رہنا۔ اسی سے ہے: نعمةُ اللهِ راهِنَةٌ: اللہ کی نعمت دائم و قائم ہے۔ ـــ الشيءَ: کو ہمیشہ رکھنا۔ ـــ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ أرهَنَ لضيفه الطعام و الشراب: مہمان کے لئے کھانے پینے کی اشیاء ہمیشہ مہیا رکھنا۔ الراهِن (فا): ہمیشہ رہنے والا، مضبوط، ہمیشہ رہنے والی خوراک وغیرہ، تیار۔ الراهِنَة: مضبوط۔ کہا جاتا ہے: هذه حجة راهِنَة: یہ مضبوط دلیل ہے۔

۲۔ رَهَنَ ۔ رَهنًا الشيءَ فلانًا و عند فلان: کسی چیز کو کسی شخص کے پاس گروی رکھنا۔ راهَنَ رِهانًا و مُراهَنَةً هُ على الخيل: گھوڑا دوڑانے کیلئے کسی سے شرط لگانا۔ ـــ على كذا: پر شرط لگانا۔ أرهَنَ هُ الشيءَ: کسی چیز کو کسی کے پاس گروی رکھنا۔ ـــ فلانًا: کو پیشگی دینا۔ ـــ في السلعة: چیز کو گراں کرنا، چیز کی بہت قیمت مانگنا۔ ـــ الميّتَ القبرَ: میت کو قبر میں رکھنا۔ تَراهَنَ القومُ: آپس میں شرط باندھنا۔ إرتَهَنَ الشيءَ منه: چیز کو سے گروی لینا۔ ـــ بالامر: کسی بات پر مقید ہونا۔ إسترهَنَ هُ الشيءَ: سے کوئی چیز گروی طلب کرنا۔ الرَهن (مص) جمع رِهَان و رُهُون و رَهِين و رُهُن: گروی، کسی شئے کی بندش و روک، گروی رکھی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے: انی لك رَهنٌ بكذا: میں

تمہارے لئے اس کا ضامن ہوں۔ ھذا رَھنٌ مالٍ: یہ مال کے مقابل ہے، مال پر موقوف یا منحصر ہے۔ ذلك فی مایُرھَن: یہ لئے جانے والے مال کی جگہ لینے کے برابر ہے۔ خیلُ الرِھان: شرط لگانے کے گھوڑے۔ ھما کفرسَی رِھان: وہ گھوڑ دوڑ کے دو گھوڑوں کی طرح ہیں یعنی تساوی ہیں۔ الرَھِین: گری رکھا ہوا، کسی کے عوض روکی ہوئی شئے۔ کہاجاتا ہے: انا رھینٌ باعمالی: میں اپنے اعمال میں قابل مواخذہ ہوں۔ الرَھِینَة جمع رَھائِن: گروی رکھی ہوئی چیز۔ انا رھینةٌ بکذا: میں اس میں اس کا ماخوذ ہوں یا ضامن ہوں۔ کلُ نفسٍ بما کسبت رھینةٌ: ہر نفس اپنی کمائی کا ذمہ دار ہے۔ الخلقُ رَھائنُ الموت: مخلوق موت سے مقید ہے۔ المُرتَھَن (مفع): ہر وہ شے جو کسی چیز کے عوض روکی جائے۔ ــــ بالامر: کسی معاملہ سے مقید۔ کہاجاتا ہے: کل امریءٍ بالموت مُرتَھَنٌ: ہر انسان موت کے ساتھ مقید ہے۔

۳۔ رَھَنَ ـ رُھُونًا: لاغر و دبلا ہونا۔ صفت: راھِن۔ اَرْھَنَ فلانًا: کو کمزور کرنا۔ الراھِن (فا): دبلا، لاغر۔

۴۔ الرَھْنامَج و الراھْنامَج: ملاحوں کا چارٹ یا نقشہ جس کی رو سے وہ سمندر میں راہ دیکھتے ہیں۔ (فارسی لفظ)۔

○ رَھَنَ ـ رَھْنًا ہ ہ/عند: کو کے پاس گروی رکھنا، رہن رکھنا، کو بطور ضمانت کے پاس جمع کرانا، کی تحویل میں دینا۔ ـ ہ: (غیر منقولہ جائیداد) رہن رکھنا، گروی رکھنا۔ راھَنَ ہ علی: کے ساتھ پر شرط لگانا، بدنا یا باندھنا۔ اَرْھَنَ ہ: کو گروی رکھنا، رہن رکھنا، کو ضمانت کے طور پر جمع کرانا، تحویل میں دینا، کو ضمانت کے طور پر دینا۔ اِرْتَھَنَ ہ من: کو سے ضمانت کے طور پر وصول کرنا یا لینا۔ ــ ہ: کو رہن رکھنا، گروی رکھنا، کو بطور ضمانت تحویل میں دینا یا جمع کرانا۔ ــ ہ ب: کو کے تابع کرنا، کو سے مشروط کرنا۔ اُرتُھِنَ ب: کے تابع ہونا۔ اِرتَھَنَ نفسَہٗ ب: (کسی بڑے مقصد کے لئے) اپنے آپ کو وقف کرنا۔ اِستَرھَنَ ہ ہ: سے کوئی چیز بطور ضمانت طلب کرنا۔ رَھْن: گروی رکھنا، رہن رکھنا۔ جمع رُھُون و رُھُونات و رِھَان: گروی رکھی ہوئی چیز۔ ــ ب: کے لئے ضمانت۔ ــ: یرغمال، رہن، گروی۔ رَھنٌ ب: پر منحصر، موقوف، سے مشروط، کی شرط پر، بشرط، بہ امید، کے ماتحت، کے تابع۔ رَھْنَ: جب تک نہ، کے ہونے تک، سے مشروط، کے تابع، کے ماتحت، کا مستوجب۔ مَحَلُّ رھونات: چیز رکھ کر روپیہ سود پر دینے والی دوکان۔ رھنَ اِشارتِہٖ: کے حکم کے تحت۔ رھنَ سیطرتہ: کسی کے اختیار کے تحت، کسی کے تسلط کے تحت۔ ھذا رھنَ ذالك: یہ اس پر منحصر ہے، موقوف ہے۔ المسالة رھنَ اِھتمامِہ: وہ اس مسئلہ پر پوری توجہ دے رہا ہے۔ اَوْدَعَ السجنَ رھنَ التحقیق: اسے تحقیقات تک حراست میں لے لیا گیا۔ رَھْنِیَّة: رہن، رہن نامہ۔ رَھِین: گروی رکھا ہوا، رہن رکھا ہوا، بطور ضمانت دیا ہوا، ضمانت کے طور پر رکھا ہوا۔ ــ ب: کے لئے ضمانت، ذمہ دار، کی شرط پر، سے مشروط۔ کان رھینةً: کا احسان مند ہونا، کا رہین منت ہونا، پر موقوف ہونا۔ رَھِینَة جمع رَھائِن: گرو، رہن، ضمانت، یرغمال، رہن۔ رِھان: شرط، مقابلہ، مسابقہ۔ مُراھَنَة جمع مُراھنات: شرط۔ راھِن: گروی رکھنے والا، رہن رکھنے والا، مقرر، معین، دیرپا، مستقل، تازہ، حالیہ، حال کا، موجودہ، حقیقی واقعی، اصلی۔ الظروفُ الراھِنة: موجودہ حالات۔ الحالةُ الراھِنة: موجودہ حالت۔ مَرھُون: گروی رکھا ہوا، رہن رکھا ہوا، بطور ضمانت دیا ہوا۔ ــ ب: سے مشروط، کے تحت۔ الامور مرھونةٌ بأوقاتھا: ہر چیز کے لئے ایک وقت ہے۔ مُرتَھِن: مرتہن، جس کے پاس کوئی چیز گروی یا رہن رکھی جائے، چیز رکھ کر روپیہ سود پر دینے والا۔

رھا: ا۔ رھا ـ رَھْوًا: نرمی کرنا۔ (کہاجاتا ہے: اِرْہُ علی نفسك: اپنے نفس پر نرمی کرو) نرم رفتار چلنا۔ ــ البحرُ: سمندر کا سکون پذیر ہونا۔ اَرْھَی اِرْھاءً علی نفسہ: اپنے نفس پر نرمی کرنا۔ کہاجاتا ہے: اَرْہِ علی نفسك: اپنے نفس پر نرمی کرو۔ اَرْھَی لكَ الشیءُ: تیرے لئے کسی چیز کا ممکن ہونا۔ اَرْھَیتُہٗ لكَ: میں نے تم کو اس پر قادر کیا۔ تَراھَی القومُ: آپس میں نرمی کا سلوک کرنا۔ الرَّھْو: نرم رفتار۔ کہاجاتا ہے: جاءَت الخیلُ رَھْوًا: گھوڑے نرم رفتار سے چلتے ہوئے آئے۔ ــــ جمع رِھاء و الرَّھْوَة: پست جگہ، بلند جگہ۔ الراھِی من العیش: آسودہ زندگی۔ الراھِیَة: الراھی کا مؤنث۔ الرَّھْوان: پست زمین، نرم پیٹھ کے گھوڑے کو بھی رَھْوان بولتے ہیں۔ (ترکی و فارسی لفظ)۔

۲۔ رھا ـ رَھْوًا بین رِجلَیہ: دونوں ٹانگیں کھولنا۔ ــ الطائرُ: پرندے کا اپنے بازو پھیلانا۔ اَرھَی اِرْھاءً: کشادہ جگہ میں آنا۔ بئرٌ رَھْوٌ: چوڑے منہ کا کنواں۔ الرَّھاء من الاماکن: فراخ و کشادہ جگہ۔ ــ من کل شیء: ہر چیز کا ہموار حصہ۔

۳۔ راھَی مُراھاةً الرجلَ: کے قریب ہونا، کے ساتھ اکٹھا ہونا، باہم حماقت کرنا۔ اِرتَھَی القومُ: آپس میں گھل مل جانا، دلیا تیار کرنا۔ الرَّھْو و الرَّھْوَة: آدمیوں کا گروہ۔ الرَّھِیَّة (ط): کوٹے ہوئے گیہوں اور دودھ سے تیار کیا ہوا دلیا۔

۴۔ اَرْھَی اِرھاءً: رہو پرندے کے کھانے پر ہمیشگی کرنا۔ ــ لھم الطعامَ: کے لئے کھانا تیار رکھنا۔ الرَّھْو جمع رِھاء (ح): سارس، کلنگ۔

۵۔ الرَّھْو: تیز چال۔ کہاجاتا ہے: الناسُ رَھْوٌ ما بین المدینة و الجبل: لوگ شہر اور پہاڑ کے درمیان مل کر چلتے ہیں۔ غارةٌ رَھْوٌ: لگاتار حملہ۔ ثوبٌ رَھْوٌ: باریک کپڑا۔ الراھِیة (ح): شہد کی مکھی۔ الأَرْھاء: جوانب، اطراف۔ المُرھِی من الخیل جمع المَراھِی: تیز رفتار گھوڑا جو بظاہر تیز نہ معلوم ہوتا ہو لیکن مقابلہ کے وقت ہوا سے باتیں کرتا ہو۔

۶۔ رَھْوَكَ الرجلُ: چلنے میں ڈھیلے جوڑوں والا ہونا۔ ــ القومُ: مضطرب ہونا۔ الرَّھْوَك: موٹا بکری کا بچہ یا ہرن کا۔ شابٌّ رَھْوَكٌ: نرم و نازک نوجوان۔

○ رَھا ـ رَھْوًا: دوگام چلنا۔ رَھْو: خاموش ساکن، ساکت، پرامن، سکوت، خاموشی، سکون، جمع رِھاء: کونج، کلنگ۔ رَھْوان: دوگامہ چال والا گھوڑا، دلکی چال والا گھوڑا، گھوڑا، ٹٹو۔

○ الرُّھاء: ایک شہر کا نام۔

○ رَھْوَن و تَرَھْوَنَ: گھوڑے کا دوگامہ چلنا۔

راب: ا۔ رابَ ـ رَوْبًا و رُؤُوبًا اللبنُ: دودھ کا جمنا۔ صفت: رائِب۔ کہاجاتا ہے: رابَ دمُہٗ: اس کی ہلاکت کا وقت قریب آپہنچا۔ رَوَّبَ و اَرابَ اللبنَ: دودھ کو جماکر دہی بنانا۔ الرائِب (فا): دہی۔ الرَّوْب: دہی۔ کہاجاتا ہے: ما عنده شوبٌ ولا روبٌ: اس کے پاس نہ تو شہد ہے اور نہ ہی دہی۔ الرُّوبة: گذران کا ذریعہ۔ دودھ بکثرت پینے سے کسل و سستی۔ ــ و الرَّوْبَة: دودھ جمانے کے لئے اس میں تھوڑی سی ڈالی جانے والی چھاچھ، دودھ کا بقیہ۔ قوم رَوْبَی واحد رائِب و رَوْبان: دہی پی کر مدہوش لوگ۔ المِرْوَب: دودھ جمانے کا برتن۔ سِقاءٌ مُرَوَّبٌ: وہ مشک جس میں دہی جمایا گیا ہو۔

۲۔ رَابَ ـُ رَوْبًا و رُؤُوبًا الرجلُ: متحیر ہونا، ست ہونا، عقل میں خلل آنا۔ رَوَّبَتِ الدابَّۃُ: جانور کا تھک جانا۔ الأَرْوَب: حیران، اونگھنے والا، ست۔ الرَوْبیٰ: چلنے کی وجہ سے ست ہو جانے والے لوگ۔ قوم رَوْبیٰ: کاہل الوجود لوگ۔

۳۔ رَابَ ـُ رَوْبًا و رُؤُوبًا الرجلُ: جھوٹ بولنا۔

۴۔ الرَاب: قدر۔ کہا جاتا ہے: ھذا رابُ کذا: یہ اتنی مقدار ہے۔ الرَائِب من الامور: شک وشبہ سے پاک امور، مشتبہ امور۔ السرُوبَۃ: تنگ دستی، حاجت۔ فلانٌ لایقوم بروبۃِ اھلہ: فلاں شخص اپنے گھر والوں کی حاجت روائی نہیں کرتا۔ ــــ من اللحم: گوشت کا ٹکڑا۔ ــــ من اللیل: رات کا ایک پہر۔ الرُوبینیَّۃ (ن): خاردار شاخوں اور خوشبودار پھولوں والا درخت، پھول سفید ہوتے ہیں یا گلابی رنگ کے، یہ درخت امریکی الاصل ہے۔

○ رَابَ ـُ رَوْبًا: دہی جمنا، دودھ جمنا۔ رَوَّبَ و اَرَابَ ہ (دودھ) جمانا۔ رَوْب: جما ہوا دودھ، دہی۔ رائِب: جما ہوا دہی۔

○ رَوْب جمع اَرْوَاب: رات کا چغہ، شبانہ لبادہ، شب خوابی کا لبادہ۔

○ رُبَابیکیا۔ بائع الروبا بیکیا: کباڑیا، ردی چیزیں بیچنے والا۔

○ رَوْبَصَۃ: خواب خرامی، نیند میں چلنا۔ تَرَوْبُص: خواب خرامی۔

○ روبل ربل (روسی سکہ)

○ رُوبِیَۃ جمع رُوبِیات: روپیہ (پاکستان اور ہندوستان کا سکہ)

○ رُوثَانِیَۃ Ruthenia۔

راث: رَاثَ ـُ رَوْثًا الفرسُ: گھوڑے کا لید کرنا۔ الرَوْث جمع اَرْوَاث: لید (گھوڑے اور تمام کھر والے جانوروں کی)۔ الرَوْثَۃ: الرَوْث کا واحد، چونچ، ناک کی چوٹی کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے: فلان یضربُ بِلِسانِہِ رَوْثَۃَ انفِہِ: فلاں شخص بہت زبان دراز ہے۔ المَرَاث و المَرْوَث من الفرس: لید کا مخرج۔

○ رَاثَ ـُ رَوْثًا: لید کرنا۔ رَوْث اسم جنس واحد رَوْثَۃ جمع اَرْوَاث: لید۔

راج: رَاجَ ـُ رَوْجًا و رَوَاجًا الامرُ: جلدی ہونا۔ رَوَّجَ الشیءَ و بِہِ: کو جلدی کرنا۔ عام لوگ اسے لازم استعمال کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں: رَوَّجَ الرجلُ: آدمی نے جلدی کی۔ تَرَوَّجَ: حوض کے گرداگرد پھرنا۔ صفت: رَوَّاج۔ الرَوْجَۃ: جلدی سرعت۔

۲۔ رَاجَ ـُ رَوْجًا و رَوَاجًا تِ السِلعَۃُ: سامان کا خوب فروخت ہونا۔ ــــ ت الدراھِمُ: درہموں کا رواج پکڑنا، رائج ہونا۔ ــــ الطعامُ: کھانے کا پک کر تیار ہونا۔ کہا جاتا ہے: احضِرْلَنا ماراجَ: جو کچھ دستیاب ومیسر ہو، ہمارے لئے لاؤ۔ رَوَّجَ السِلعَۃَ والدراھِمَ: سامان تجارت اور درہم رائج کرنا۔

۳۔ رَاجَ ـُ رَوْجًا و رَوَاجًا تِ الریحُ: ہوا کا نامعلوم سمت سے چلنا۔ رَوَّجَ فلانٌ کلامَہُ: کسی کا اپنے کلام کو مزین کر کے اس کی حقیقت کو چھپانا، مبہم کرنا۔

○ رَاجَ ـُ رَوَاجًا: پھیلنا، گردش کرنا، رائج ہونا، چالو ہونا، خوب بکنا، کا بازار گرم ہونا، کو منڈی ملنا۔ ــــ ل کے لئے دستیاب ہونا، موجود وحاضر ہونا۔ رَوَّجَ ہ (افواہیں، خبریں) پھیلانا، (افواہیں، خبریں، سکہ، روپیہ) رائج کرنا، عام کرنا، مشتہر کرنا، مشہور کرنا، کی فروخت کو آگے بڑھانا، (سامانِ تجارت) کیلئے منڈی کھولنا، (سامان تجارت) بیچنا، بازار میں لانا۔ ــــ ہ/ل: کو ترقی دینا، آگے بڑھانا۔ ــــ ل: کے لئے نشر و اشاعت کرنا، کی اشاعت کرنا۔ رَوَاج: گردش، اشاعت، قابل فروختگی بازار میں لیجانے کے قابل ہونا، بکنے کی صلاحیت، فروخت کی قابلیت، فروخت شدہ اشیاء کی مقدار۔ اَرْوَج: زیادہ عام، بہتر فروخت ہونے والا، زیادہ وسیع علاقہ میں پایا جانے والا، زیادہ لوگوں میں تقسیم ہونے والا۔ تَرْوِیج: پھیلانا، اشاعت، گردش، فروخت، سامان تجارت کی تقسیم، ترقی، فروغ۔ رائج: گردش میں، چالو، مروج، رائج الوقت، ہمہ گیر، عالم گیر، وسیع علاقہ یا بہت لوگوں میں پایا جانے والا، عام، قابل فروخت، جو بک سکے، جس کی بکری ہو سکے، جس کی مانگ ہو، خوب بکنے والا (مال تجارت) جس کی گرم بازاری ہو۔

○ رُوج: سرخی، گلگونہ، غازہ عارض۔

راح ۱۔ رَاحَ ـُ رَوَاحًا: شام کے وقت آنا یا جانا یا کام کرنا، وقت کی قید کے بغیر مطلق جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ــــ رَوَاحًا و رَوْحًا القومَ و الیھم و عندھم: قوم کے پاس شام کے وقت جانا، (مطلقاً) قوم کے پاس جانا۔ ــــ و تَرَوَّحَ رائحۃً تِ الابلُ: اونٹوں کا شام کے وقت اپنے ٹھکانے پر واپس آنا۔ رَوَّحَ القومَ: شام کے وقت قوم کے پاس جانا۔ ــــ الابلَ: اونٹوں کو شام کے وقت ان کے ٹھکانے (باڑے) میں واپس لانا۔ اَرَاحَ اِرَاحَۃً الابلَ: اونٹوں کو ان کے باڑے میں واپس لانا۔ ــــ الرجلُ: شام کے وقت میں داخل ہونا۔ تَرَوَّحَ: شام کے وقت چلنا یا کام کرنا۔ ــــ القومَ: قوم کے پاس شام کے وقت جانا۔ الرائح جمع رَوْح (فا) الرائحۃ جمع رائحات و رَوَائح: الرائح کا مؤنث: الروائح کا واحد روائح: شام کے وقت ہونے والی بارشیں یا شام کے وقت آنے والے بادل۔ کہا جاتا ہے: مالَہُ سارحۃٌ ولا رائحۃٌ: اس کے پاس مویشی بالکل نہیں۔ الرَوْحَۃ جمع رَوْحات: راح کا اسم مرہ۔ الرَوَاح (مص): شام یا سورج کے ڈھلنے کے وقت سے رات تک کا وقت اس کا مقابل الصباح ہے۔ کہا جاتا ہے: خرجوا بِرَوَاحٍ من العشیّ: وہ شام کے پہلے حصہ میں باہر نکلے۔ اَفْعَلُ ذلک فی سَرَاحٍ و رَوَاحٍ: میں یہ کام صبح و شام کرتا ہوں۔ المُرَاح: اونٹوں، گایوں، بکریوں وغیرہ کا باڑہ، ٹھکانا۔ المَرَاح: لوگوں کے آنے جانے کی جگہ۔

۲۔ رَاحَ ـَ رَوْحًا الیومُ: دن کا تیز ہوا والا ہونا۔ ــــ یَرَاحُ رِیْحًا الیومُ: دن کا تیز ہوا والا ہونا۔ ــــ البیتُ: گھر کا ہوادار ہونا۔ کہا جاتا ہے: افتح البابَ حتی یَرَاحَ البیتُ: دروازہ کھول کہ ہوا گھر میں آئے۔ ــــ الریحُ الشیءَ: چیز کو ہوا لگنا۔ ــــ القومُ الریحَ: قوم کا ہوا میں داخل ہونا۔ رِیحَ: (کو) ہوا لگنا۔ صفت: مَرُوح و مَرِیح۔ رَوَّحَ علیہ بالمِرْوَحَۃ: کو پنکھا کرنا، پنکھے سے ہوا دینا۔ اَرَاحَ اِراحۃً القومُ: لوگوں کا ہوا میں داخل ہونا۔ تَرَوَّحَ بالمِرْوَحَۃ: پنکھا جھلنا۔ اِسْتَرْوَحَ استرواحًا الغصنُ: ٹہنی کا ہوا سے ہلنا۔ یوم راحٌ: تیز ہوا والا دن۔ لیلۃٌ راحۃٌ: تیز ہوا والی رات۔ الرَوْح: باد نسیم۔ یومٌ رَوْحٌ: خوشگوار دن۔ لیلۃٌ رَوْحَۃٌ: خوشگوار رات۔ الریح جمع اَرْیَاح و اَرْوَاح و رِیَاح و رِیَح جج اَرَاوِیح و اَرَایِیح: ہوا، بو (یہ مؤنث ہے)۔ الریاح: چار ہیں (۱) الجنوب: دکھنی (۲) الشمال: اُتری۔ (۳) الصبا: پروائی (۴) الدَبُور: پچھوائی۔ الرِیْحَۃ: ہوا۔ الرَیّح من الایام: تیز ہوا والا دن، اچھی ہوا والا دن۔ الرائحۃ جمع رائحات و رَوَائح: بو، (خوشبو یا بدبو)۔ المَرُوح و المَرِیح: جس کو ہوا لگے۔ یوم مَرُوحٌ: عمدہ ہوا کا دن۔ المِرْوَح جمع مَرَاوِح: پنکھا۔ المَرْوَحَۃ جمع مَرَاوِح: بیابان۔ المِرْوَحَۃ

جمع مَرَاوِح: پنکھا۔ ـــ الکَهْرَبَائِية: برقی پنکھا، بجلی کا پنکھا، عام لوگ اسے مِهْوَايَة کہتے ہیں۔ (حی): موٹر کا ایک جزء۔ (پنکھا)

۳۔ رَاحَ يَرَاحُ رَاحَةً الشیءَ: چیز کی بو پانا۔ ـــ رَيْحًا الشیءَ: کی بو پانا۔ رَوَّحَ الدهنَ: تیل کو خوشبودار بنانا۔ اَرَاحَ اِرَاحَةً الشیءَ: کی بو محسوس کرنا۔ ـــ الماءُ او اللحمُ: پانی یا گوشت کا بدبودار ہونا۔ اَرْوَحَ الماءُ: پانی کا بدبودار ہونا۔ ـ الشیءَ: کی بو پانا۔ تَرَوَّحَ الماءُ: پانی کا اپنے قریب کی چیز کے اثر سے بودار ہونا۔ ـــ الشیءُ: کی بو پھیلنا۔ اِسْتَرْوَحَ اِسْتِرْوَاحًا الشیءَ: کو سونگھنا۔ ـ الصیدُ: شکار کا انسان کی بو پانا۔ الرِیح بو (جو سونگھنے سے معلوم ہو) اچھی اور خوشگوار چیز۔ الرِیْحَة بو۔ الرَیْحان جمع رَیَاحِین: ہر خوشبودار پودا (ن) ایک چھوٹا جنگلی پودا جس کے نیلے پھول چمکدار ہوتے ہیں۔ اسے حبق بھی کہتے ہیں، روزی، معیشت۔ الرَیْحَانَة: پھولوں کا گلدستہ۔ دُهْنٌ مُرَوَّح (مفع) خوشبودار تیل۔

۴۔ رَاحَ يَرَاحُ رَاحَةً للمعروف: نیکی کرنے کی طرف خوشی سے جلدی سے کرنا۔ ـ تْ یدُہ للامر: کام کے لئے سبک دست ہونا۔ ـ منك معروفاً: اس نے تم سے بھلائی حاصل کی۔ ـــ رَوَاحًا و رَاحًا و رَاحَةً و رِيَاحَةً و رُؤُوحًا و اَرْيَحِيَّةً للامر: کسی کام کی طرف خوشی سے متوجہ ہونا۔ رَوَّحَ قلبَهُ: کے دل کو بیدار کرنا۔ ـــ الرجلَ: کو آرام دینا۔ ـــ بالجماعة: تراویح با جماعت پڑھنا۔ رَاوَحَ بین العَمَلَیْن: باری باری سے دو کاموں میں مشغول ہونا۔ ـــ بین رِجْلَیْهِ: باری باری سے دونوں پاؤں پر کھڑا ہونا۔ اَرَاحَ المعروفَ: بھلائی پانا۔ ـــ هُ: کو راحت میں رکھنا۔ ـ الرجُلُ: سانس لینا، مرنا۔ اَرَاحَ فَاَرَاحَ: اس نے مر کر سکھ میں ڈالا۔ ـ علی فلانٍ حقَّهُ: کسی کا حق واپس دے دینا۔ اَرْوَحَ علیه حقَّهُ: کا حق اسے واپس دے دینا۔ تَرَاوَحَ الرجلان الامرَ: دو آدمیوں کا کسی کام کو باری باری سے کرنا۔ کہا جاتا ہے: ان یَدَیْهِ تتراوحان بالمعروف: اس کے ہاتھ باری باری نیکی کرتے ہیں۔ اِرْتَاحَ: خوش ہونا، چست ہونا، آرام لینا (عام لوگوں کی زبان میں)، کہا جاتا ہے: هما یَرْتَوِحَانِ عملاً: وہ دونوں کام کو باری باری سے کرتے ہیں۔ ـــ اللّٰهُ لَهُ بِرَحْمَتِهِ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بلا و مصیبت سے بچانا۔ اِسْتَرَاحَ استراحةً: آرام پانا۔ ـ الیه سے تسلی و سکون پانا۔ اِسْتَرْوَحَ اِسْتِرْوَاحًا: آرام پانا۔ الـراح: خوشی، نشاط، شراب۔ الـرَوْح: خوشی، آرام، رحمت، انصاف، مدد۔ الرِیح: رحمت، مدد، غلبہ و طاقت۔ الراحَة جمع راحات: آرام، خوشی (یقین سے حاصل ہونے والی)۔ الـرَوَاح والـمَرَوَاحَة والرَوِیْحَة: یقین سے پیدا شدہ خوشی۔ الأَرْيَحِیّ: وسیع الخلق اور نیکی کے کاموں میں چست شخص۔ الأَرْيَحِيَّة: انسان کی وہ نیک عادت جو اس کو اچھے افعال اور فیاضی پر ابھارتی ہے۔ التَرَاوِیح تَرْوِیحة کی جمع: اسکے معنی مطلقاً بیٹھنے کے ہیں۔ پھر شب ہائے رمضان میں ہر چار رکعت نماز کے بعد آرام لینے کے لئے نشست پر اس کا اطلاق کیا جانے لگا۔ تراویح کی پوری بیس رکعت نماز کو بھی تراویح کہتے ہیں۔ اور چار رکعت کو ترویحہ۔ الـمُسْتَرَاح: بیت الخلاء، پاخانہ۔

۵۔ رَاحَ يَـرَاحُ راحةً الشجـرُ: موسم گرما کے بعد درخت کا پتے لانا۔ تَرَوَّحَ الشجرُ: موسم گرما کے بعد درخت کا پتے لانا۔ ـــ النبتُ: پودے کا دراز ہونا۔ اِسْتَرْوَحَ اِسْتِرْوَاحًا الشجرَ: درخت کو ہرا کرنا۔

۶۔ رَوِحَ - رَوَحًا: کشادہ ہونا۔ الرَوَح: وسعت، دو ٹانگوں کے درمیان کشادگی فراخی۔ الرَاحَة جمع رَاحَات: صحن۔ الأَرْوَح مونث رَوْحَاء جمع رُوْح: وہ شخص جس کی ٹانگوں کے درمیان فراخی ہو۔ ـ و الأَرْيَح: واسع، کشادہ۔

۷۔ الرَاحَة جمع راحات: الراح کا واحد، کف دست ہتھیلی، (کہا جاتا ہے: ترکتُه علی انقی من الراحة میں نے اس کو بالکل تہی دست چھوڑا) کپڑے کی تہہ۔ کہا جاتا ہے: اطوِ الثوبَ علی راحته: کپڑے کو اس کی تہہ پر تہہ کرو۔ الـرُوح جمع اَرْوَاح: (مذکر و مونث) جان، نفس۔ (کہا جاتا ہے: هو خفیف الرُوح وہ پاکیزہ ہے)، وحی، اللہ تعالیٰ کا حکم و امر، ایک آسمانی روح۔ الروح الاعظم: اللہ تعالیٰ۔ رُوحُ القُدُس: الٰہی اقانیم ثلاثہ کا تیسرا اقنوم۔ الأَرْوَاح (ك): اگلے حکماء معدنیات کی ایک قسم پر ارواح کا اطلاق کرتے ہیں جیسے پارہ، بعض جڑی بوٹیوں کا خلاصہ اور بعض پھلوں اور دانوں اور نباتات کا نچوڑ۔ الأَرْوَاحُ الخبیثة: شیاطین، ابالیس، نسبت کیلئے روحانی۔ الرُوحَانِيَّة: یہ عقیدہ کہ نفس غیر مادی ہے، روحانی وجود۔

○ رَاحَ رَوَاحًا: جانا، چلا جانا، چھوڑنا (مصادر) سے پہلے آئے تو) کچھ شروع کرنا، کچھ کرنے لگنا۔ رَوَّحَ: ہوا کرنا۔ ـ هٗ: (دل، ہمت، جوش ولولہ) کو تازہ کرنا، میں روح پھونکنا، ہمت بندھانا، جوش دلانا۔ رَيَّحَ هٗ: کو آرام دینا، کا دل بہلانا، کی بے چینی دور کرنا، کو آرام اور تفریح پہنچا کرنا۔ ـــ عن: آنکھوں کو آرام پہنچانا۔ رَوَّحَ عن نفسه: تفریح پانا، اپنا دل خوش کرنا، جی بہلانا۔ رَاوَحَ هٗ: شام کے وقت کسی کے پاس جانا۔ ـ بین (دو چیزوں) کو باری باری کرنا، بدلنا۔ اَرْوَحَ: بدبودار ہونا، متعفن ہونا، سے بدبو نکلنا۔ اَرَاحَ: کو آرام دینا۔ ـــ هٗ: کو رہنے دینا۔ ـ هٗ من: کو سے بچانا، محفوظ رکھنا، نجات دلانا۔ ـ هٗ: (دل وغیرہ) کو تسکین پہنچانا۔ ـــ هٗ من: کو سے دور کرنا، چھٹکارا دلانا، کے لئے کسی چیز کی شدت کم کرنا۔ ـ هٗ: سے نیکی کرنا۔ ـ هٗ ب: کو سے خوش کرنا۔ اَرَاحَ نفسَهُ من: سے تفریح پانا، سے آرام کرنا۔ تَرَوَّحَ بالمروحة: اپنے آپ کو پنکھا کرنا، پنکھا جھلنا۔ تَرَاوَحَ بین: کے مابین: بدلتے رہنا، باری باری ہونا، بدلنا یا مختلف ہونا، کے درمیان یا کے بیچ میں ہونا یا آنا۔ اِرْتَاحَ من: سے آرام پانا۔ ـ آرام کرنا، تفریح پانا۔ ـ اِلی: سے مطمئن ہونا، خوش ہونا، متفق ہونا، پر رضامندی ظاہر کرنا۔ ـــ ل/الی: کو پسند کرنا۔ ـــ ل/الی: کے بارے میں خوش ہونا۔ ارتاح للمعروف: مہربانیاں کرنے کو پسند کرنا، کارآمد یا مددگار ہونے پر خوش ہونا۔ اِسْتَرْوَحَ: سانس لینا۔ ـــ هٗ: کو سونگھنا، کی ناس لینا۔ ـــ الی: سے تازہ دم ہونا۔ ـــ اِسْتَرَاحَ: خاموش ہونا، خاموش ہو جانا، آرام پانا، آرام لینا، سے تازہ دم ہونا۔ ـ من: سے آرام کرنا، سے نجات پانا، بچ جانا، سے چھٹکارا پانا۔ ـــ اِلی: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، کے بارے میں خوش ہونا، پر اطمینان یا خوشی محسوس کرنا یا پر اطمینان و خوشی کا اظہار کرنا۔ راح: شراب۔ ریح (مونث کبھی کبھی مذکر) جمع رِیَاح و اَرْوَاح و اَرْيَاح: ہوا، گوز، پاد، بو۔ ابُو رِیَاح: بادنما، سمت نما، مرغ بادنما، ڈراؤنا پتلا جو پرندوں اور جانوروں کو بھگانے کے لئے کھڑا کیا جائے۔ سَكَنَتْ رِیحُهُ: مر جانا، متروک ہو جانا، بھلا دیا جانا، فراموش ہو جانا۔ هَبَّتْ رِیحُهُ: فارغ البال ہونا، آسائش اور مزے سے ہونا، خوش نصیب ہونا۔ ذَهَبَ مَعَ الرِیح: غائب ہو جانا، کافور ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ رَیِّح: ہوادار، بڑی ہوا والا۔ رُوح (مذکر و مونث) جمع اَرْوَاح: زندگی کا سانس، روح،

جان، شخص، تنفس، بندوق کی نالی۔ رُوحُ القُدُس اور الرُّوحُ القدس: جبریل، روح الامین (عیسائیوں کے نزدیک) تثلیث کا تیسرا شخص۔ لا رُوحَ فیہ: بے ہمت، افسردہ، پژمردہ، مضمحل، پھیکا، بے مزہ، بے لطف، بے کیف، بے مغز، بے عقل۔ خفیفُ الروح: پسند خاطر، مرغوب، پسندیدہ، ملنسار، خوش خلق، قابل محبت، دلکش، دلآویز۔ ثقیل الرُّوح: کند ذہن، ...، سادہ لوح، بیزار کن، کان کھاؤ، ناگوار (شخص)۔ طویلُ الروح: صابر، صبر سے برداشت کرنے والا۔ حِرصًا علی الأرواح: خطرہ! (تنبیہی نشان)۔ رُوحِیّ: نشہ آور، روحانی، دینی، مذہبی، جمع روحیات: روحانی اشیاء۔ حالۃٌ روحِیَّۃ: ذہن کی حالت یا مزاج۔ مشروباتٌ روحِیۃ: مُسکرات، تیز شرابیں۔ رُوح نقل، جائے وغیرہ۔ رَوْحَۃ جمع روحات: شام کو کیا جانے والا سفر یا سندیسے کا سفر۔ راحۃ: آرام، سکون، تفریح، آسائش، چین، سہولت، آسانی، فرصت، تعطیلات، آرام تسکین، تسلی تشفی (جمع راحات و راح): ہتھیلی، ہاتھ۔ بالراحۃ: آرام سے، اطمینان سے، آہستہ، آسانی سے، نرمی سے۔ بکل راحۃ: آرام سے، آسانی سے، آسانی کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ بیتُ الراحۃ: بیت الخلاء، پاخانہ۔ اسباب الراحۃ: پرتکلف چیزیں، تکلفات۔ مُعِدّاتُ الراحۃ: آسائشیں۔ فترۃُ الراحۃ: آرام، مختصر وقفہ، وقفہ، آدھی چھٹی۔ راحۃُ الحُلقوم: ایک ترکی میٹھا کھانا۔ راحۃُ الید: ہتھیلی، کف دست۔ راحۃ القدم: (پاؤں کا) تلوا۔ رِیحۃ: بو۔ رُوحِیۃ: روحانی وجود، ذہنیت، رجحان، افتادِ طبع، ذہنی قابلیت، ذہنی رویہ، مزاج۔ رَواح: روانگی، جانا، چھوڑ جانا، واپسی، واپسی کا سفر، آرام، سکون۔ فی غُدُوِّہ و رَواحِہ: آتے جاتے مراد: ہر اس کام میں جو اس نے کیا۔ رَیّاح جمع رَیّاحات: بڑی آبپاشی کی نہر۔ (مصر کے نظام آبپاشی میں) بڑی نہر۔ أرْوَح: زیادہ تسکین دہ، زیادہ تسلی بخش۔ أرْیَحِی: سخی، فیاض، فراخ دل، أرْیَحِیۃ: سخاوت، فیاضی، فراخ دلی، بڑی سخاوت۔ رَیْحان: (اسم جنس) شیریں نازبو، کالی تلسی، ریحان جمع رَیاحِین: خوشبودار یا مہک دار پودے۔ قلمُ الرَّیحان یا القلم الرَّیحانی: عربی خطاطی کا ایک انتہائی آرائشی اسلوب۔ رُوحانِیّ: روحانی، غیر مادی، خدائی، مقدس پاک۔ (جمع روحانیون): پادری۔ روحانیۃ: روحانی وجود،

تبدیلی ہیئت۔ مَراح: وہ جگہ جہاں شام کو جاتے ہیں۔ مُراح نیز مَراح: چراگاہ، دن کے وقت کی چراگاہ۔ مِرْوَحۃ جمع مَراوِح: پنکھا، روشندان، بحری یا ہوائی جہاز کو چلانے کا ایک آلہ propeller۔ المِروَحۃ الخُوص: کھجور کے پتے کا پنکھا۔ مِروَحۃُ الخَیش: کینوس کا پنکھا جو چھت سے لٹکایا جاتا ہے اور کمرے کو ہوا دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ مِرْواح: پنکھا، روشندان۔ مِرْیاح: اپھار یا تخم پیدا کرنے والی (خوراک، کھانا)۔ تَرْوِیح: ہوا دینا، ہوادار بنانا، نقل جائے وغیرہ، تفریح۔ (الترویح عن النفس بھی اسی آخری معنی میں ہے)۔ تَرْوِیحۃ: ترویحۃ نفس: سیر، چہل قدمی، ہوا خوری۔ صلاۃ التراویح: رمضان کے مہینہ کی راتوں میں ادا کی جانے والی نماز۔ تَرْیِیح: نصب کرنا، تنصیب، ڈالنا، شامل کرنا۔ اِرْتِیاح: اطمینان، تسکین، خوشی، مسرت۔ اِسْتِرْواح: ہوادار بنانا، ہوا کی مقدار، سانس لینا، سانس۔ اِسْتِراحۃ: آرام، سکون، تفریح جمع استراحات: آدھی چھٹی، وقفہ (مسافروں کے لئے) آرام گاہ۔ رائح: رائح و عادٍ: بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور واپس آ جانے والا، ٹہلنے، چہل قدمی کرنے والا۔ رائحۃ جمع روائح: بو، خوشبو، (جمع روائح) عطریات، خوشبوئیں، خمیر، خمیر کرنے والے سفوف۔ مُرِیح: آرام دہ، پرسکون، تسکین دہ، تسلی بخش، گرم اور آرام دہ، فتح کرنے والا۔ کُرسِیٌّ مُرِیحٌ: بازوؤں والی کرسی، بازودار کرسی، بڑی آرام دہ کرسی۔ مُرتاح: آرام کرنے والا، پرسکون، مطمئن، خوش۔ مُرتاح البال: پرسکون۔ مُرتاحُ الضمیر: پرامن ذہن والا، ضمیر کی خلش سے خالی۔ مُستَرِیح: آرام دہ، پرسکون، مطمئن۔ مُستراح: بیت الخلا، پاخانہ۔

راد: ۱۔ رادَ ـُ رَوْدًا و رِیادًا الارضَ: کسی زمین میں چراگاہ اور پانی وغیرہ کی تلاش کرنا کہ کیا وہ پڑاؤ وغیرہ کے لئے مناسب ہے یا نہیں۔ ـــ الشیءَ: کو طلب کرنا۔ ـــ قومَہُ مرعیً او منزلاً: قوم کے لئے چراگاہ یا منزل کی تلاش کرنا۔ ـــ رَوَدانًا و رِیادًا: کسی چیز کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا۔ ـــ ت الإبلُ: اونٹوں کا آتے جاتے مختلف چراگاہ اختیار کرنا۔ ـــ رَوْدًا و رَوَدانات المرأۃُ: عورت کا اپنے ہمسایوں کے گھر زیادہ آنا جانا۔ ـــ ت الماشیۃ: مویشی کا چرنا۔ رَوَّدَہُ کو طلب و جستجو پر اکسانا۔ راوَدَ مُراوَدَۃً و رِوادًا ہُ: کو چاہنا۔ ـــ ہُ عن و علی نفسِہ: کو دھوکا دینا، گناہ کی ترغیب دینا۔ ـــ علی کذا: کا ارادہ کرنا۔ أرادَ إرادۃً الشیءَ: کو چاہنا، کی خواہش کرنا، کی رغبت کرنا۔ ـــ ہُ علی الامر: کو کسی امر پر اکسانا، برانگیختہ کرنا۔ اِرْتادَ اِرتیادًا الشیءَ: کو طلب کرنا۔ اِسْتَرادَ الرجلُ: ادھر ادھر پھر کر روزی کی تلاش کرنا۔ ـــ ت الدابۃُ: جانور کا چرنا۔ الراد: بمعنی الرائد۔ الرِید: طلب، تلاش۔ الرائِد (فا) جمع رادَۃ و رُوّاد و رائِدُون: وہ شخص جس کو قوم پڑاؤ تلاش کرنے کے لئے بھیج دیتی ہے۔ جاسوس، چکی کا دستہ۔ رائدُ العین: آنکھ میں کھٹکنے والا خس و خاشاک۔ کہا جاتا ہے: ھو رائدُ الوِساد: وہ غم کی بے کلی کی وجہ سے غیر مطمئن ہے۔ الرائدَۃ والرائِدَۃ و الرُّوادۃ: اپنی پڑوسنوں کے گھروں میں بہت آنے جانے والی عورت۔ المَراد: چراگاہ میں اونٹوں کی آمد و رفت کی جگہ۔ المِرْوَد جمع مَراوِد: چرخی کا دھرا، لگام کے حلقے کا لوہا، میخ۔ (حـ): لوہے یا لکڑی کا ٹکڑا جو جسم کے وسط میں گذارا جاتا ہے تاکہ اس جسم کو اپنے گرد گھمائے، سرمہ کی سلائی۔ المُستَراد: چراگاہ میں اونٹوں کی آمد و رفت کی جگہ۔ مُستَرادُ الرجل: آدمی کے گھومنے پھرنے کی جگہ۔ المَراوِید: وہ جگہیں جہاں جانور آتے جاتے ہیں۔

۲۔ رادَ ـُ رَوْدًا و رَوَدانات الریحُ: ہوا کا نرم چلنا۔ أرْوَدَ إرْوادًا و مُرْوادًا و مُرْوَدًا و رُوَیْدًا و رُوَیدِیَۃً فی السیر: نرم رفتار سے چلنا، آہستہ چلنا۔ اِستَرادَ: فرماں بردار ہونا، مطیع ہونا۔ ـــ لِأمرِ اللّٰہِ: حکم خداوندی کے سامنے جھک جانا اور اس کی طرف لوٹ جانا۔ الرُّود: کہا جاتا ہے: امشِ علی الرُّود: ہلکے چلو۔ الرَّوْد (مص): کہا جاتا ہے: رِیحٌ رَوْدٌ و رائِدَۃ: نرمی سے چلنے والی ہوا۔ رُوَیْد: أرْوَدَ کا مصدر مصغر ہے۔ کہا جاتا ہے: رُوَیدًا زیدًا: زیدًا آہستہ۔ رویدا یہاں مصدر ہے۔ رُوَیْدَکَ زیدًا و رُوَیدَ زیدٍ: زید کو مہلت دو، یہاں یہ اسم فعل ہے اور کاف حرف خطاب ہے جس کے اعراب کا کوئی محل نہیں۔ کبھی اضافت سے محل جر میں بھی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ساروا سیرًا رُوَیدًا وساروا رُوَیدًا: وہ نرمی سے یا آہستہ آہستہ چلے، یہاں یہ صفت ہے، حال کے طور پر بھی آتا ہے جیسے اس قول میں: سار القومُ رُوَیدًا: لوگ آہستہ چلے۔ یہاں رُوَیدًا بمعنی متمھلین ہے۔ الأرْوَد: اپنے کام میں آہستگی کرنے والا۔ کہتے ہیں: الدھرُ أرْوَدُ ذو غِیَر: زمانہ سکون سے کام کرتا رہتا ہے کسی کو اس کا

پتہ ہی نہیں چلتا۔ الدھرُ اَوْرَدُ مُسْتَبِدٌ: زمانہ معاملہ میں نرم اور اپنے امر میں برتر ہے۔

۳۔ الرادار: راڈار، لاسلکی آنکھ (radar)۔ الرادیو: ریڈیو (radio)۔ الرادِیُوم (ل) ریڈیم: ایک تابکار دھات (radium)۔

۴۔ الرَادیکالي: یکسر تبدیلی (یا بنیادی تبدیلیوں) کا حامی radical۔ الرادِیکالِیَّۃ: انقلابی سیاست، بنیادی تبدیلیوں کی حمایت پر مبنی سیاست (radicalism)۔

○ رَادَ ـ رَوْداً: ادھر ادھر پھرنا، پھرتے رہنا، ڈھونڈتے پھرنا، کوچہ گردی کرنا۔ ــــ ہ: کو ڈھونڈنا، کی تلاش کرنا۔

رَاوَدَہ علی: کو کے لئے ہمنوا بنانا، چاہنا، کو کچھ کرنے پر اکسانا، ورغلانا، ترغیب دینا۔ ــ ہ: کے قریب ہونا، کے پاس آنا۔ ــــ ہ عن: کو سے برگشتہ کرنا چاہنا، کو ورغلا کر سے ہٹانے کی جستجو کرنا۔ ــ ھا: کسی عورت کو عصمت لٹانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا۔ رَاوَدَہُ عن نفسہ: کو پھسلانے اکسانے یا ترغیب دینے کی کوشش کرنا۔ ارَادَ ہ: کو چاہنا۔ ــ أن: کو کرنا چاہنا، کو کرنے کی خواہش کرنا، کو کرنے پر رضامند ہونا، کو کرنے کا ارادہ رکھنا۔ ــــ ہ: کو حاصل کرنا چاہنا، کی خواہش کرنا، کی تمنا یا حرص کرنا، کے لئے جانفشانی کرنا، بے حد کوشش کرنا، کی طرف جانا، بڑھنا، کی طرف روانگی کے لئے تیار ہونا، کا ارادہ کرنا، عزم کرنا، کو مدنظر رکھنا۔ ــ أن: کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ ــــ من ہ/الی: کے ساتھ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ ــ من ہ: سے کی غرض ہونا، کا مقصد ہونا، دل میں کسی چیز کے ذریعے کسی چیز کا واضح خیال ہونا۔ ــ الی من: کا سے مطلب ہونا یا منشا ہونا۔ ــ ہ/الی: کو حاصل کرنے یا کرنے کی کوشش کرنا، پر تلا ہونا۔ ــــ ہ/ہ ب: کا سے مطلب ہونا۔ ــــ ہ ب: کو کے ساتھ موزوں خیال کرنا۔ ــــ ہ ب: کسی کے لئے یا کسی کے خلاف (منصوبہ) بنانا۔ ــــ ہ ب: کچھ کرنے کا کسی کے ساتھ ارادہ کرنا یا پروگرام بنانا۔ ــــ ہ/ان: کچھ کرنے کو ہونا۔ ــــ ہ علی: کو کچھ کرنے پر اکسانا، آمادہ کرنا، راغب کرنا، پر کچھ کرنے کے لئے زور دینا۔ ارَادَ بہ أن: اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ۔ اراد بہ خیراً: کے لئے اچھی تمنا ظاہر کرنا۔ اَرَادَہُ علی أن: کسی کو کچھ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا۔ ارَادَ العاصمۃ: وہ دارالحکومت کی طرف جانے والے راستہ پر تھا۔ ارَادَ نفسَہُ علی الشيء: اس نے خود کو کوئی کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اِرْتَادَ ہ: کسی جگہ جانا، (جگہ) کی سیاحت کرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا۔ رَوْد: سیاحت، گہرا مطالعہ، غور وخوض۔ رِیَادَۃ: سیاحت، گہرا مطالعہ، غور وخوض۔ رُوَیْداً: آہستہ، نرمی سے آہستگی سے، دھیمے سے، اطمینان سے، آرام سے۔ رُوَیْداً رُوَیْداً: بتدریج، آہستہ، تھوڑے عرصہ میں۔ رُوَیْدَکَ: آہستہ، گھبراؤ مت، دلجمعی سے کئے جاؤ۔ مِرْوَد جمع مَرَاوِد: سرمئی قلم، موقلم، سرمہ کی سلائی۔ اِرَادَۃ: نیت، مرضی، پسند، قوت ارادی، اختیار، خواہش، آرزو، تمنا، منشا، مراد، مطلب، رغبت۔ (جمع ارادات)، (حاکم کا) حکم، فرمان، قوت ارادی۔ حَسْبَ الارادۃ: حسب مرضی، جب چاہے۔ اِرَادِيّ: خودسر، ضدی، دانستہ، قصداً کیا ہوا، رضا کارانہ۔ اِرْتِیَاد: (کسی جگہ) جانا، سیاحت، گہرا مطالعہ، غور وخوض۔ رَائِد جمع رُوَّاد: کسی جگہ آنے والا، مخبر، نگران، سکاؤٹ، دیکھ بھال کرنے والا، بوائے سکاؤٹ، سیاحت کرنے والا، رہنما، میجر، اصول اخلاق، راہنما اصول، (طرز عمل کا) ضابطہ۔ مُرِید جمع مُرِیدُون: (تصوف کا) اناڑی، نوآموز، (عروج وترقی کا) آرزومند، متمنی، حامی، حمایتی، وابستہ، وابستہ دامن، پیرو، ہوا خواہ، طرف دار، تبع، مرید، چیلا، شاگرد۔ مُرَاد: چاہا گیا، خواہش کیا گیا، ارادہ کیا ہوا، منصوبہ، مقصد، غرض، غایت، ارادہ، مطلب، مدعا، منشا۔

رود: الرَوَنْد والرِوَنْد والرَوَانْد (ن): ریوند چینی (rhubarb)۔ (ایک پودا جس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، کھایا جاتا ہے اس کا طبی خاصہ یہ ہے کہ قبض کشا ہے اور معدہ کو تقویت دیتا ہے)۔

○ رُودُس: Rhodes (جزیرہ کا نام)

○ رُودِیسِیا: Rhodesia (ملک کا نام)۔

راز: ا۔ رَازَ ـ رَوْزاً الحجرَ: پتھر کو تول کر معلوم کرنا کہ کتنا بھاری ہے۔ ــــ الدینارَ: دینار کو تول کر اسکی مقدار معلوم کرنا۔ ــــ الرجلَ: مرد کو آزمانا۔ رَوَّزَ الکلامَ او الرایَ: کلام یا رائے پر تھوڑا تھوڑا کرکے غور کرنا تاکہ اس کی قدر و قیمت کا اچھی طرح اندازہ کیا جاسکے۔ رَازَيَ ہٗ: کو آزمانا۔ یہ راوزہ کا مقلوب ہے۔ الراز جمع رازۃ: معماروں کا سردار، اس کی اصل رائز ہے۔ جیسے شَاکٍ و شَائِکٌ۔ الرِیَازَۃ: معماری۔ المَرَاز و المَرَازَۃ: وزن اور مقدار۔

۲۔ رَازَ ـ رَوْزاً الارضَ: زمین پر قیام کرکے اصلاح کرنا، زمین کو قابل کاشت بنانا۔

۳۔ رَازَ ـ رَوْزاً ما عِندَہُ: کسی کے پاس کسی چیز کو طلب کرنا اور چاہنا۔ صفت رائز جمع رَازَۃ۔

۴۔ الرازي: رے (شہر) کی طرف منسوب، رے (شہر) کا باشندہ۔ المَرَازَان: پستان (دونوں)۔ الرُوَیْزِيّ: سر اور کندھوں پر اوڑھنے کی چادر، (طیلسان جمع طیالسۃ)۔

۵۔ الروزنامۃ: تقویم، جنتری، روزنامچہ، روز بمعنی دن اور نامہ بمعنی کتاب ہے، فارسی لفظ ہے۔

○ رَازَ ـ رَوْزاً ہ: کا وزن کرنا، کو تولنا، کو جانچنا، کی جانچ پڑتال کرنا، پر غور کرنا۔ رُوزْنَامَۃ: تقویم جنتری (almanac)۔

راس: ا۔ رَاسَ ـ رَوْساً: متکبرانہ چال سے چلنا۔

۲۔ رَاسَ ـ رَوْساً: زیادہ کھانا۔ اِسْتَرَاسَ: کھانا طلب کرنا۔ الرَوْس (مص): زیادہ کھالینا، بسیار خوری۔

۳۔ رَاسَ ـ رَوْساً السیلُ الغُثاءَ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ بہالے جانا۔ الرَوَائِس: اگلے بادل۔ رَوَائِس الأَوْدِیَۃ: وادیوں کی چوٹیاں۔

۴۔ الرَوْس: عیب، آدمی۔ کہا جاتا ہے: اِنَّہُ رَوسُ سوءٍ: وہ برا آدمی ہے۔

○ رَوَّسَ (راس سے) ہ: کو نوکدار بنانا، کو تیز کرنا، کو گاؤدم بنانا، (مضمون، کتاب) کا عنوان لگانا، کی سرخی جمانا۔ تَرْوِیسَۃ: عنوان، سرخی۔

○ مِرواس: دوڑنے کی سڑک۔ مَرَاوِیس: دوڑ کے گھوڑے۔

○ الرُوس: روسی لوگ۔ رُوسِي: روسی، روس کا، روس کے متعلق۔ الرُوسِیَّۃ: روسی زبان۔ رُوسِیَا: روس (ملک)۔

○ رَوْسْتُو و لَحْمُ روستو: تلا ہوا گوشت، بھنا ہوا گوشت، کباب۔

راش: رَاشَ ـ رَوْشاً: زیادہ کھانا۔ ــــ ہُ المرضُ: بیماری کا کسی کو کمزور کردینا۔ الرَاش مِنَ الجمال او الرماح: کمزور اونٹ یا نیزہ۔ یہ رائش کا مخفف ہے جس کی مونث راشۃ ہے۔ الرَوَش: عقل کی کمی۔ الأَرْوَش مونث رَوْشاء: کم عقل۔

○ رَوْشَن جمع رَوَاشِن: سقفی روشندان، ہوادان، موکھا۔

راص: رَاصَ ـ رَوْصاً: بیوقوفی کے بعد سمجھدار ہونا۔

راض: ا۔ رَاضَ ـ رَوْضاً و رِیَاضَۃً و رِیَاضاً المُھرَ: بچھیرے کو سدھانا، رام کرنا، چلنا سکھانا۔ صفت فاعلی: رَائِض جمع رَاضَۃ و رُوَّاض و رُوَّض و رائِضُون: صفت مفعولی: مَرُوض مونث مَرُوضَۃ: (یعنی بچھیرا جسے سدھایا جائے، رام کیا

جائے اور چلنا سکھایا جائے)۔ رَوَّضَ المُهْرَ بچھیرے کو خوب سدھانا۔ رَاوَضَ هُ علی الأمر بہلا پھسلا کر کسی کو کسی کام پر لگانا۔ تَرَاوَضَ الرَّجُلان فی البیع والشراء دو مردوں کا خرید و فروخت کے معاملہ میں آپس میں جھگڑنا۔ ــــ القومُ فی الامر لوگوں کا کسی معاملہ میں آپسمیں مناظرد کرنا۔

اِرْتَاضَ المُهْرُ بچھیرے کا سدھ جانا۔ کہا جاتا ہے: ارتاضت القوا فی الصعبة للشاعر مشکل قافیے شاعر کے مطیع ہو گئے۔ الرَّیِّض وہ جانور جس کو سدھانا شروع کیا گیا ہو۔ (مذکر و مؤنث اس میں برابر ہیں)۔ أمْرٌ رَیِّضٌ غیر محکم کام، کم تدبیر سے کیا ہوا کام۔ الرِّیَاضَة (مص) جسمانی ورزش۔ بری حالت سے اچھی حالت کیطرف تبدیلی، نفسانی اخلاق کی اصلاح و درستی، عبادت و مراقبہ کے لئے عزلت گزینی و گوشہ نشینی۔ العِلْم الرِّیَاضِیّ و عِلم الرِّیاضِیَّات علم حساب، الجبرا، جومیٹری وغیرہ۔

۲۔ رَوَّضَ الرجلُ باغوں میں رہنا۔ ــــ المطرُ الارضَ بارش کا زمین کو باغ و بہار کر دینا۔ اَرَاضَ اِرَاضَةً سیراب ہونا۔ ــ المکانُ: کسی جگہ میں باغات بکثرت ہونا۔ ــــ القومَ لوگوں کو سیراب کرنا۔ ــ اللّٰهُ الارضَ اللہ تعالیٰ کا زمین کو مختلف قسم کی نباتات سے ہرا بھرا کر دینا۔ ــــ الحوضُ: پانی کا حوض کی تہہ کو ڈھک لینا۔ اَرْوَضَ المکانُ کسی جگہ کا سبزہ سے ڈھک جانا اور بکثرت باغوں والی ہونا۔ ــ ت الارضُ من المطر زمین کا بارش سے تر ہونا۔ اِسْتَرَاضَ اِسْتِرَاضَةً المکانُ: کسی جگہ کا بکثرت باغات والی ہونا، پانی سے ڈھک جانا، کشادہ ہونا۔ ــــ ت النفسُ دل کا خوش ہونا۔ الرَّوْض (ز) قسم قسم کے پودوں سے سرسبز جگہ۔ الرَّوْضَة جمع رَوْض و رِیاض و رَوْضَات رِیْضَان (ز) قسم قسم کی نباتات سے سرسبز جگہ، باغ، حوض میں بچا ہوا پانی۔ کہا جاتا ہے: فی الحوض روضةٌ مِنَ الماء حوض کی زمین پانی سے چھپی ہوئی ہے۔ رَوْضَةُ الأَطْفَال ننھے بچوں کا سکول جہاں انہیں گیموں، کھلونوں وغیرہ سے تعلیم دی جاتی ہے، ۲ یا ۳ سے ۵ سال کے بچوں کا سکول۔ رَوْضَاتُ الجنّات باغوں کی پر بہار جگہیں۔ الرِّیْضَة: بمعنی رَوْضَة۔ الرَّیِّضَة روضہ۔ المَرَاض جمع مَرَابِض و مَرَاضَات نرم پست زمین میں سخت جگہ جو پانی کو روک لے۔ نَبَاتٌ مُسْتَرْوِضٌ بہت بڑا اور لمبا پودا۔ اَرْضٌ مُسْتَرْوِضة اچھی نباتات اگانے والی زمین۔

○ رَاضَ ـ رَوْضًا و رِیَاضَةً ہ جانور کو پالتو بنانا، رام کرنا، سدھانا، تربیت دینا۔ ــ ہ: کو تربیت دینا، کی تربیت کرنا، کو تعلیم دینا، ٹھنڈا کرنا، کا غصہ ٹھنڈا کرنا۔ رَاضَ نفسَهُ علی: کی مشق کرنا، کی عادت ڈال لینا، کی مزاولت کرنا، کی ورزش کرنا۔ رَوَّضَ بمعنی رَاضَ ہ نیز رَوَّضَ ہ دریا وغیرہ کو رام کرنا، کو نظام کے تحت لانا۔ رَاوَضَ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، کو قائل کرنے کی کوشش کرنا۔ تَرَوَّضَ مشق کرنا، ورزش کرنا۔ تَرَیَّضَ سیر کرنا، پھرنا، چہل قدمی کرنا، جسمانی ورزش کرنا، کھیلوں میں حصہ لینا، شریک ہونا۔ تَرَاوَضَ (قیمت وغیرہ پر) ایک دوسرے سے بول تول کرنا، سودا کرنا، معاملہ طے کرنا۔ اِرْتَاضَ مشق کرنا، ورزش کرنا۔ ــــ ب میں تربیت حاصل کرنا۔ ــــ سیر کرنا، چہل قدمی کرنا۔ اِسْتَرَاضَ خوش ہونا یا ہو جانا، خوش باش ہونا یا ہو جانا۔ رَوْضَة جمع رَوْض و رَوْضَات و رِیاض و رِیضَان باغ، سبزہ زار، مرغزار۔ رَوْضَةُ الأطفال جمع ریاض الاطفال: کنڈرگارٹن، نرسری سکول۔ الرِّیَاض (سعودی عربیہ کا دارالحکومت): ریاض۔ رِیَاضَة جمع رِیاضات: مشق، ورزش، جسمانی ورزش، جسمانی کرتب، ورزشی کرتب، کھیل (ورزشی)، سیر، گلگشت، چہل قدمی، گشت کرنا، پھرنا، آرام، مراقبہ۔ رِیَاضَات مذہبی مشقیں، عبادات، پوجا پاٹ، ریاضی، ریاضیات۔ رِیَاضَة نفسیة چہل قدمی، سیر، گلگشت۔ الرِّیَاضَة البَحْتَة خالص ریاضی، ریاضیات۔ الرِّیَاضَة التطبیقیة عملی ریاضیات۔ ریاضة عقلیة: عقلوں کی ورزش، عقلی کھیلیں۔ رِیَاضِی کھیلوں کا، کھیلوں کے متعلق، کھیلوں پر مائل، خوش طبع۔ (جمع ریاضیون): کھلاڑی، کھیل کا شوقین، علم ریاضی کی رو سے، ریاضی کے متعلق۔ أخبارٌ رِیَاضِیَة: کھیلوں کی خبریں۔ مُرَاسِلٌ رِیَاضِیٌّ کھیلوں کا رپورٹر۔ الالعاب الرِّیَاضِیَة (ورزشی) کھیلیں دوڑ کود کے مقابلے۔ رِیَاضِیَّات: علم ریاضی، ریاضیات، مقدار، فاصلہ اور وقت کا حساب۔ تَرْوِیض دوڑ کود کے مقابلے۔

راط: رَاطَ ـ رَوْطًا و رَیْطًا بالمکان: کسی جگہ پناہ لینا۔

راع: رَاعَ ـ رَوْعًا و رُؤُوعًا منه سے گھبرانا، ڈرنا، صفت: رَائِع و رَوِع ـ ہُ الامرُ کو کسی بات کا ڈرا دینا، گھبرا دینا۔ کہا جاتا ہے: ما راعنی الا قلومُك: مجھے صرف تمہارا آنا محسوس ہوا۔ رِیْعَ فلانٌ: کسی کا خوف زدہ ہو جانا۔ رَوَّعَ و اَرَاعَ ہُ: کو گھبرا دینا، ڈرانا۔ اَرْوَعَ اِرْوَاعًا الراعی بالغنم چرواہے کا بکریوں کو ڈانٹنا، للکارنا۔ تَرَوَّعَ منه وله سے ڈرنا۔ اِرْتَاعَ منه وله سے ڈرنا۔ الرُّوْع دل کا سیاہ داغ یا اس میں ڈر کی جگہ۔ (کہا جاتا ہے: اَفْرِخْ رُوْعَكَ: سکون (اطمینان ہاتھ سے نہ دو)۔ ذہن، عقل۔ الرَّوْع خوف، ڈر، لڑائی، جنگ۔ الرَّوْعَة ڈر۔ رائعةُ الشیب بڑھاپے کا آغاز۔ المُرَوَّع بہت خوف زدہ، تیز فہم، باریک بین۔ درست الہام پانے والا۔

۲۔ رَاعَ ـ رَوْعًا ہُ الامرُ: کسی بات کا کسی کو تعجب میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: هذه شربةٌ راع بها فؤادی: اس مشروب سے میرے دل کی سخت پیاس ٹھنڈی ہو گئی۔ رَوِعَ ـ رَوَعًا زیادہ مسرت بخش ہونا، زیادہ راحت بخش ہونا۔ رَوَّعَ و اَرَاعَ ہُ: کو تعجب میں ڈالنا۔ اِرْتَاعَ للخبر خبر سے خوش ہونا۔ الرَّوَع رَوِع کا اسم، حسن و جمال اور بہادری سے تعجب میں ڈالنے والا ہونا۔ الرَّوْعَة ہر حسن و جمال کا حصہ۔

الأَرْوَع جمع رُوَّع و اَرْوَاع مؤنث رَوْعَاء: اپنے حسن و جمال یا بہادری کی وجہ سے تعجب میں ڈالنے والا، ہوشیار، ذکی۔ قلبٌ اَرْوَع ڈرپوک دل۔ فلانٌ رُوَاعُ القلب فلاں ہوشیار، ذکی ہے۔ الرَّائِع (فا) جمع رَائِعُون و رُوَّع مؤنث رائعة جمع رَوَائِع و رُوَّع لوگوں کو اپنے حسن و جمال یا بہادری سے تعجب میں ڈالنے والا، حیران کرنے والا۔ کلامٌ رائِعٌ خوش گوار کلام۔ رائِعةُ النَّهار او الضُّحی دن یا چاشت کا بڑا حصہ۔

۳۔ رَاعَ ـ رَوْعًا و رُؤُوعًا فی یدی کذا ہاتھ میں مضبوط ہونا۔ فائدہ ہونا۔

۴۔ رَاعَ ـ رُوَاعًا لوٹنا، واپس ہونا۔

○ رَاعَ ـ رَوْعًا ہُ: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، دہشت زدہ کرنا، ڈرا کر بھگا دینا، چونکانا، چونکا دینا، کو چوکس یا چوکنا کرنا، کو گھبرا دینا، یکا یک آلینا، یکا یک آکر گھبرا دینا، کو تعجب میں ڈالنا، کی پسندیدگی کو جگانا، کو بھلا معلوم ہونا، کو اچھا لگنا، کی توجہ مبذول کرنا، کو پسند آنا، کو خوش کرنا، میں جذبات کی لہر دوڑا دینا، کے دل میں اتر جانا۔ ما راعنی الا مجیئكَ: تمہاری آمد میرے لئے مکمل حیرت رہی ہے۔ رَوَّعَ و اَرْوَعَ ہ: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، دہشت زدہ کرنا، ڈرا کر بھگا دینا، چونکانا، کے لئے احترام کا جذبہ پیدا کرنا۔ تَرَوَّعَ و

اِرْتَاعَ مِنْ: سے ڈرنا، خوف زدہ ہونا، چونکنا۔
رَوْع: خوف، ڈر، دہشت، اندیشہ، کھٹکا، حول۔
رُوْع: دل، ذہن، روح۔ ھَدّئْ رُوْعَكَ و سَكِّن رُوْعَكَ: گھبراؤ مت۔ اَلْقَى (اَدْخَلَ) فی رُوْعِه ان: کو باور کرانا کہ، کو یقین دلانا کہ، کو قائل کرنا کہ، کو آمادہ کرنا کہ۔ —ہ: کی روح پھونکنا، کا جوش پیدا کرنا۔ خَطَرَ بِرُوْعِه: اس کے ذہن میں آیا، کو خیال آیا۔ رَوَع: حسن، جمال۔ رَوْعَة: خوف، دہشت، ڈر، اندیشہ، کھٹکا، ہول جلال، احترام، رعب، اچنبھا، سخت تعجب، حیرانی، حیرت، حیرت کی بات، حسن و جمال، دلفریبی، دلکشی، دلیری، دل آویزی، شان و شوکت، شان وشکوہ، کرّ وفرّ، رونق اور شان، چمک دمک، آب وتاب۔ اَرْوَع: زیادہ حیرت انگیز، زیادہ معجزنما، زیادہ دلکش، زیادہ دلربا، زیادہ دلفریب، زیادہ راحت بخش، زیادہ مسرت بخش، زیادہ پرشکوہ، زیادہ شاندار، زیادہ عمدہ، زیادہ واضح، صاف تر۔ اِرْتِيَاع: ہول، دہشت، اندیشہ، خوف، کھٹکا، صدمہ۔ رَائِع: شاندار، عالیشان، عمدہ، قابل تعریف، قابل ستائش، بہت عمدہ، بہت ہی اچھا، حیرت انگیز، معجز نما، خوب، پرشکوہ، دلکش، دلفریب، دلربا، دل آویز، مسرت بخش، راحت بخش، پرجلال، بارعب، رعب دار، مرعوب کن، اثر آفرین، ہیجان خیز، دل کی طرح صاف۔ فی رائعة النهار: دن دہاڑے۔ فی رائعة شبابه: اپنے عنفوان شباب میں۔ الحقيقة الرائعة: واضح سچائی۔ رَائِعَة جمع رَوَائِع: ایک مرعوب کن چیز۔ رَوَائِع الفن: ادبی شاہکار، فنی شاہکار۔ مُروِّع: ہولناک، خوفناک، دہشت ناک، ناگوار، ڈراؤنا۔ مُرِيْع: ڈراؤنا، وحشت ناک، ناگوار، ہولناک، خوفناک، افسوسناک۔ مُرْتَاع: ڈرا ہوا، ہولایا ہوا، دہشت زدہ، گھبرایا ہوا۔

راغ: ۱۔ رَاغَ ـُ رَوْغًا و رَوَغَانًا الصيدُ: شکار کا اِدھر اُدھر جانا۔ — الرجلُ عن الطريق: مکرو فریب کے طور پر راستہ سے الگ ہوکر (ایسے ویسے) کترا جانا۔ — اِلی کذا: چپکے سے کسی کی طرف مائل ہونا۔ — علیه بالضرب: کو مارنے کے لئے ٹوٹ پڑنا۔ رَاوَغَ مُرَاوَغَةً ہٗ: سے کشتی لڑنا، کو دھوکا دینا۔ — ہٗ علی الامر: کو کسی کام پر پھسلانا، ورغلانا۔ — القومُ: ایک دوسرے کو فریب سے طلب کرنا۔ اَرَاغَ اِرَاغَةً ہٗ: کو مکر و فریب سے طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے: مازلتُ اُرِيْغُ حاجةً لی: میں اپنی ایک حاجت ابھی تک حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ — الرجلَ: کو دھوکا دینا۔ — ہٗ علی امرٍ و عن امرٍ: کو بہلا پھسلا کر اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تَرَاوَغَا: ایک دوسرے کو فریب دینا، آپس میں کشتی لڑنا۔ اِرْتَاغَ اِرْتِيَاغًا ہٗ: کو فریب سے طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے: اِرْتَاغَ العقابُ الصيدَ: عقاب نے اپنے شکار کے پیچھے ادھر ادھر چکر کاٹے۔ طريقٌ رَائِغٌ: ٹیڑھا راستہ۔ الرَّوَاغ و الرُّوَيْغَة: مکر و فریب۔ الرَّوَّاغ: بہت حیلہ گر، فریبی، لومڑی۔ کہا جاتا ہے: هو ثعلبٌ رَوَّاغٌ و هم ثعالبُ رَوَّاغَة: وہ مکار لومڑی ہے۔ وہ مکار لومڑیاں ہیں۔ الرِيَاغة و الرِوَاغة: کشتی لڑنے کا اکھاڑہ۔
۲۔ رَوَّغَ اللقمةَ فی الدسم: لقمہ کو چکنائی میں خوب بھگونا، الٹ پلٹ کر چکنائی کو اس میں جذب کرنا۔ تَرَوَّغَ الحمارُ: گدھے کا مٹی میں لوٹنا۔
۳۔ الرِيَاغ: سر سبزی۔
راغ ـُ رَوْغًا و رَوَغَانًا: اچانک مڑنا، جھوک کھانا۔ — من/عن: سے بچنا، اِدھر اُدھر ہٹنا، بچ نکلنا، کے راستے نکل جانا۔ —: چوری چھپے نکل جانا۔ — اِلی: کی طرف جانا، روانہ ہونا۔ رَاوَغَ ہٗ: کے ساتھ بے ایمانی کرنا، دھوکا کرنا، دغا بازی کرنا، دورخی سے کام لینا، کے ساتھ ناجائز طریقے سے لڑنا۔ —: ادھر ادھر ہونا، گھٹیا دھوکے اور فریب میں مشغول ہونا، رویہ بدلتے رہنا۔ رَوَاغ: داؤ پیچ، چال، حکمت عملی، تدبیر، ترکیب، استادی، حیلہ، چالبازی، شرارت بھرا فریب۔ رَوَّاغ: عیار، مکار، کائیاں، فریبی، چالباز۔ رُوَيْغَة: داؤ، داؤ پیچ، چال، حکمت عملی، تدبیر، ترکیب، استادی، حیلہ، چالبازی، شرارت، بھرا فریب۔ اَرْوَغ: زیادہ فریبی، زیادہ چالباز، زیادہ عیار۔ رَوَغَان: اچانک مڑنا، جھوک کھانا، ادھر ادھر ہٹنا، حیلہ، عذر، حیلہ بہانہ، لیت ولعل، ٹال مٹول۔ مُرَاوَغَة: عیارانہ لین دین، بددیانتی کے تعلقات، ریاکارانہ رویہ، دھوکہ، فریب، دغا، تدبیر، ترکیب، حیلہ، چالبازی، عیاری، چالاکی۔ (جمع مُرَاوَغَات): غلط بیانیاں، ہیر پھیر، حیلے بہانے، دروغ گوئیاں، دھوکے، چالیں، بری حرکتیں۔

راف: رَافَ ـُ رَوْفًا: بمعنی رَأَفَ يَرْأَفُ۔ الرَّوْف: سکون۔ الرَّوْفَة: رحمت۔

راق: ۱۔ رَاقَ ـُ رَوْقًا الشرابُ: شراب کا صاف ہونا۔ رَوَّقَ الشرابَ: شراب کو صاف کرنا۔ الرَّوْق (مص) جمع اَرْوَاق: خالص محبت۔ کہا جاتا ہے: اَلْقَى علیه اَرْوَاقَه و شراشره: [illegible] بولتے ہیں جب یہ کہنا ہو کہ تم فلاں سے بہت محبت کرتے ہو۔ — من الماء و نحوہ: صاف پانی وغیرہ۔ الرائق جمع رَوْق و رُوْقَة (فا)۔ الرَّاوُوق: صافی یا چھلنی، وہ برتن جس میں شراب صاف کی جائے، پیالہ۔ المُرَوَّق: صاف کیا ہوا۔
۲۔ اَرَاقَ اِرَاقَةً الماءَ: پانی بہانا، ڈالنا۔ — دَمَہٗ: کا خون بہانا یعنی اسے قتل کر دینا۔ الرَّوْق جمع اَرْوَاق: بارش۔ — من السحاب: سایہ کی طرح چھایا ہوا بادل۔
۳۔ رَاقَ ـُ رَوْقًا و رَوَقَانًا ہُ الشیءُ: کو کوئی چیز پسند آنا، کو چیز کا خوش کرنا، تعجب میں ڈالنا۔ الرَّوْق من الخیل جمع اَرْوَاق: اچھی ساخت کا خوبصورت گھوڑا۔ — من الشباب: آغاز جوانی اور جوانی کی بہار۔ الرُّوْقَة: رائق کی جمع: بہت خوبصورت شخص۔ کہا جاتا ہے: غلمان رُوْقَة: حسین لڑکے: (واحد جمع مذکر و مؤنث میں یکساں مستعمل ہے) جیسے: غلام رُوْقَة و جارية روقة و جوارٍ رُوْقَة: (حسین لڑکا، حسین لڑکی، حسین لڑکیاں) الرَّوْقَة بہترین حسن و جمال۔ رَيِّقُ كل شیء: ہر چیز کا بہترین حصہ۔ — الشباب: جوانی کا آغاز اور اس کی بہار، جوانی کی رونق۔ کہا جاتا ہے: كنتُ فی رَيِّقِ زمانی: میں اپنے زمانہ کی ابتداء میں تھا۔
۴۔ رَاقَ ـُ رَوْقًا علیه: فضیلت میں کسی سے زائد ہونا۔ رَوَّقَ بِضَاعَتَهٗ: اپنا سامان بیچ کر اس سے اچھا سامان خریدنا۔ الرَّوْق (مص) جمع اَرْوَاق: چیز کی زیادتی، سردار، بہادر۔ الرُّوْقَة: برگزیدہ لوگ۔
۵۔ رَوِقَ يَرْوَقُ رَوَقًا: نیچے کے دانتوں کے مقابلہ میں اوپر کے لمبے دانتوں والا ہونا۔ صفت: اَرْوَق مؤنث رَوْقَاء جمع رُوْق۔ الرَّوَق: اوپر کے دانتوں کا لمبا ہونا، جو عیب شمار ہوتا ہے۔ الأَرْوَق: اوپر کے لمبے دانتوں والا۔
۶۔ رَوَّقَ و اَرْوَقَ اللیلُ: رات کا تاریکی پھیلانا۔ رَوَّقَ البیتُ: گھر کا سائبان تیار کیا جانا۔ رَاوَقَ مُرَاوَقَةً ہٗ: ایک دوسرے کے مقابل برآمدے رکھنا۔ کہا جاتا ہے: هو مُرَاوِقِی: اس کا برآمدہ میرے برآمدے کے سامنے ہے۔ الرَّوْق جمع اَرْوَاق: شکاری کی جگہ، خیمہ (کہا جاتا ہے: ضرب رَوْقَهٗ بمنزل کذا: وہ فلاں جگہ اتر کر خیمہ زن ہوا)۔ — من البیت: سائبان، اگلا حصہ۔ — من اللیل: رات کا ایک پہر۔ — من السحاب: سائبان کی [illegible] القت السحابة [illegible]

أَرْوَاقَهَا: بادل بہت زور سے برس پڑا۔ کہا جاتا ہے: رَمَى بِأَرْوَاقِهِ علی الدابّۃِ: وہ جانور پر سوار ہوا۔ أَلْقَى بِأَرْوَاقِهِ عن الدابۃ: وہ جانور سے اترا۔ أَلْقَى أرواقَهُ: وہ تیز دوڑا، یا اطمینان کے ساتھ کسی جگہ اقامت کی (ضد)۔ داهيةٌ ذاتُ رَوْقَيْــن: بڑی مصیبت۔ الرُّوَاق و الرِّوَاق جمع أَرْوِقَة و رِوَاقات و رُوْق (ب): برآمدہ، سائبان یا گھر سے آگے چھت سے نیچے تک چھوڑا ہوا پردہ۔ رِوَاقُ العين: ابرو۔ ـــ الليل: رات کا اگلا حصہ۔ ـــ السلامة (ا ع): لشکر کے قافلوں کے دفاع اور بچانے کے لئے کی جانے والی موثر عسکری تدابیر و ذرائع۔ بَيْتٌ مُرَوَّقٌ: سامنے پردہ چھوڑا ہوا مکان۔

۷۔ رُوْقُ الفرس جمع أَرْوَاق: وہ نیزہ جو گھوڑے کے کانوں کے درمیان رکھا ہو، ایسی حالت میں گھوڑے کو اُزْ وَرَق کہتے ہیں۔ الرَّوْق جمع أَرْوَاق: عمر، جسم، جماعت (کہا جاتا ہے: جاء رَوْقُ بني فلان: فلاں قبیلہ کی جماعت آئی۔) سینگ۔ الأَرْوَق: سینگ دار، سینگ والا۔

○ رَاقَ ـُ رَوْقًا: (سیال چیز کا) صاف ہونا، پاک ہونا۔ ـــ علی: (کسی چیز یا شخص) سے بڑھ جانا، بازی لیجانا، پر سبقت لیجانا، سے برتر ثابت ہونا۔ ـــ ہ/ ل/ فی عينه: کو خوش کرنا، کو پسند آنا، کو بہت اچھا لگنا۔ رَوَّقَ ہ: (سائل) کو صاف کرنا، پاک کرنا، فلٹر کرنا، مقطر کرنا۔ ـ دمَهُ: (مشروب کا) کسی کو تازہ دم کرنا۔ ـ: کو ٹھنڈا کرنا، تسلی دینا، مطمئن کرنا۔ رَوَّقَ البضاعةَ: تمام سامان کم قیمت پر بیچ دینا (دوکان مستقل طور پر بند ہونے سے قبل)۔ أَرَاقَ ہ: (سیال کو) بہانا، گرانا۔ أَرَاقَ ماءَ وجهه: اپنی عزت قربان کر دینا، منہ دکھانے کے قابل نہ رہنا، حقیر و بے عزت ہو جانا۔ تَرَوَّقَ: ناشتہ کرنا۔ رَاق جمع رَاقات: تہہ، پرت، طبقہ۔ رَوْق جمع أَرْوَاق: سینگ، غلام گردش، بارہ دری۔ رُوْقَة: خوبصورت، حسین، جمیل، خوبرو (عورت مرد، واحد و جمع کے لئے)۔ رِوَاق و رُوَاق جمع أَرْوِقَة: خیمہ، پردہ، خیمہ کا لٹکتا ہوا پردہ، بازار پر چٹائیوں کی چھت، غلام گردش، بارہ دری، کھلی گیلری، ستونوں کی قطار، کمرہ یا گیلری جس کے ایک یا ایک سے زائد کھلے اطراف ہوں خصوصاً جو گھر کا حصہ ہو اور ایک طرف باغ کی جانب کھلی ہو، برآمدہ، بیرونی ڈیوڑھی، پیش دہلیز، سراپردہ، الازہر یونیورسٹی قاہرہ میں طلبہ کے لئے اقامتی اور کام کے کمرے۔ ضرب رواقه: اپنا خیمہ گاڑنا۔

ٹھہرنا، قیام پذیر ہونا۔ رِوَاقِــي: زاہد، زاہدانہ، رواقی، جمع رواقيون: رواقی، زاہد، ایک قسم کا راہب، برادر۔ الرِّوَاقية: زہد، رواقیت۔ رَاوُوق: پانی مقطر کرنے کا برتن یا آلہ۔ تَرْوِيق: تقطیر، تنقیہ، پاکیزگی۔ تَرْوِيقة: ناشتہ۔ إِرَاقَة: بہانا، گرانا۔ اراقةُ الدماء: خونریزی، قتل و غارت۔ رَائِق: صاف، پاک۔

○ مال الروك: عوامی ملکیت۔

رول: رَوَّلَ الخبزةَ: روٹی کو گھی میں بھگونا۔ ـ الفرسُ: گھوڑے کی رال بہنا۔ الرُّوَال جمع رَوَاوِيل: جانوروں کی رال۔ المِرْوَل: بہت رال گرانے والا۔

○ رَوَّلَ: رال ٹپکانا، بہانا، بہنے دینا۔ رُوَال: رال۔

○ رَوْل: کردار، کام۔

رام: رَامَ ـُ رَوْمًا و مَرَامًا الشيءَ: کا ارادہ کرنا۔ صفت: رائم جمع رُوَّم و رُوَّام۔ رَوَّمَ فلانًا و به: کو خواہش دلانا، سے ارادہ کرانا۔ ـ رَايَةً: یکے بعد دیگرے چیزوں کا ارادہ کرنا۔ المَرَام جمع مَرَامات: مقصد، مطلب۔

۲۔ رَوَّمَ: ٹھہرنا۔

۳۔ تَرَوَّمَ به: سے ٹھٹھا کرنا۔

۴۔ الرام (ن): درخت۔ الرَّامَة: جوہڑ، بادیہ میں ایک جگہ، شعر میں اس کا استعمال اکثر تثنیہ کے لفظ سے ہوتا ہے۔ الرَّوْم: کان کی لو۔ الرُّوْم: کان کی لو۔ (ك): گنے کی تلچھٹ کی تقطیر اور تخمیر کے ذریعے بنائی جانے والی شراب۔ ـ والأَرْوَام واحد رُومِيّ: بحر ابیض متوسط کے شمال میں بسنے والے لوگوں کی نسل۔ عیسائیوں کے ایک فرقہ کا نام۔ بحر الرُّوم: بحر ابیض متوسط۔ اسے البحر الابیض بھی کہا جاتا ہے۔ الــرُّوْمَة: سریش جس سے تیر کا پر جوڑا جاتا ہے۔ رُوْمَة و رُومِيَة: اٹلی کا ایک شہر۔ اس سے نسبت کے لئے: رُومَانِي۔ الرُّومَنطيقية او الرومانسية: رومانیت، تخیلیت۔

○ رَامَ ـُ رَوْمًا و مَرَامًا ہ: کو چاہنا، کی خواہش کرنا، کی تمنا کرنا، حرص کرنا، آرزو کرنا۔ ـ ل ہ: کے لئے کی خواہش کرنا۔ ـــ ہ: کو ڈھونڈنا، کی تلاش کرنا۔ علی مايُرام: اتنا اچھا جس کی کوئی امکان بھر خواہش کر سکے، بہت عمدہ حالت میں۔ رَامَ اللّٰہ: رام اللہ یروشلم (بیت المقدس، القدس) کے شمال میں مغربی اردن کا ایک شہر۔ رَوْم: خواہش، حسرت، تمنا۔ مَرَام جمع مَرَامات: خواہش، حسرت، تمنا، طلب، آرزو۔ الرُّوْم: رومی، بازنطینی۔ جمع أَرْوَام: یونانی آرتھوڈکس گرجا کے پیروکار۔ بحر الروم: بحر ابیض متوسط۔ رُومِي جمع أَرْوَام: رومی، بازنطینی، یونانی آرتھوڈکس (چرچ)۔ دِيك رُومِي: ایک قسم کا مرغ، بیل۔ جِبْنَة رومي: پنیر کی ایک قسم۔ رُوْما و رُوْمَة: روما۔ رُومِيَة: روما۔ الرُّومَان: رومن، رومانی لوگ۔ روماني: رومن، رومانی۔ رُومَانيا: رومانیا (ملک)۔

○ رُومَاتزم: وجع المفاصل، جوڑوں کا درد۔

○ رِوَنْد و رَاوَنْد: ریوند چینی (rhubarb)۔

ران: ۱۔ رَانَ ـُ رَوْنًا الأمرُ: سخت ہونا۔ ـ ت الليلةُ: رات کے ہول کا سخت ہونا۔ الرَّوْن جمع رُوُوْن: سختی۔ رُوْنَةُ الشيءِ: چیز کی سختی اور اس کا بڑا حصہ۔ کہا جاتا ہے: 'كشفَ اللّٰهُ عنك رُوْنَةَ هذا الامر: اللہ تعالیٰ تجھ سے اس معاملہ کی سختی دور کرے۔ الأَرْوَنَان: سخت دشوار۔ ـــ والأَرْوَنَانِيّ مؤنث أَرْوَنَانَة و أَرْوَنَانِيَّة: ہر چیز کی سختی و تیزی مثلاً سردی و گرمی اور خوشی و غمی وغیرہ کی سختی و تیزی، شور و غل کی سختی۔ مَرُوْنٌ به: مغلوب۔

۲۔ الــرَّوَنْد و الــرِّوَنْد و الرَّاوَنْد (ن): ریوند چینی، باغوں میں اگنے والا پودا جس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں اور پکا کر پھل کی طرح کھائے جاتے ہیں۔ قبض کشا اور مقوی معدہ ہوتے ہیں۔

راہ: رَاهَ ـُ رَوْهًا و رُوَاهًا الماءُ: پانی کا سطح زمین پر لہریں مارنا۔

روی: ۱۔ رَوَى ـِ رِوَايَةَ الحديثَ: بات کو نقل کرنا، بیان کرنا۔ صفت: رَاوٍ جمع رُوَاة و رَاوُوْن۔ رَوَّى تَرْوِيَةً ہ الشِّعْرَ: کو شعر کی روایت پر آمادہ کرنا۔ أَرْوَى إِرْوَاءً فلانًا الشِّعْرَ: کو شعر کی روایت پر آمادہ کرنا۔ تَرَوَّى تَرَوِّيًا الحديثَ: بات کی روایت کرنا، بات نقل کرنا۔ الرَّاوِيَة: حدیث یا شعر بیان کرنے والا۔ (تا مبالغہ کی ہے)۔

۲۔ رَوَى ـِ رِوَايَةَ الحبلَ: رسی بٹنا۔ ـــ الرحلَ: کجاوہ کو اونٹ پر رسی سے باندھنا۔ أَرْوَى إِرْوَاءً الرِّوَاءَ على البعيرِ: اونٹ پر لادے ہوئے سامان کو رسی سے باندھنا۔ تَرَوَّى تْ مفاصلُهُ: کے جوڑوں کا معتدل اور سخت ہونا۔ ارْتَوَى ارتواءً الحبلُ: رسی کا بٹنا۔ ـــ تْ مفاصلُهُ: کے جوڑوں کا سخت اور معتدل ہونا۔ الرِّوَاء جمع أَرْوِيَة و المِرْوَى جمع مَرَاوٍ و مَرَاوَى: وہ رسی جس سے جانور پر لدے ہوئے سامان کو باندھا جاتا ہے۔

۳۔ رَوَی ۔ رِوَایَۃً القَومَ: قوم کے لئے پانی لانا، طلب کرنا۔ رَوِیَ ۔ رِیًّا و رَیًّا و رِوًی من الماء: پانی سے سیراب ہونا صفت: رَیَّان مؤنث رَیَّا جمع رِوَاء۔ ــ الشجرُ: درخت کا سرسبز ہونا۔ رَوَّی تَروِیَۃً: سفر میں پانی ساتھ لے جانا۔ (یومُ التَّروِیَۃ: ماہ ذی الحجہ کا آٹھواں دن جس میں حجاج پانی لے کر جاتے ہیں)۔ ــ النباتَ: پودے کو پانی دینا۔ أَروَی إِروَاءً القومَ: لوگوں کو پانی سے سیراب کرنا۔ تَرَوَّی تَرَوِّیًا: پانی سے سیراب ہونا۔ ــ القومُ: قوم کا سفر میں پانی ساتھ لے جانا۔ اِرتَوَی اِرتِوَاءً من الماء: پانی سے سیراب ہونا۔ الرَّاوِیَۃ جمع رَوَایَا: وہ جانور جس پر پانی لاد کر لایا جائے، پانی لانے کی مشک۔ الـرَّوَّ: زرخیزی۔ الرِّوَی: سیراب کرنے والا، بہت پانی۔ الرَّوِیّ: پانی پلانے والا، ساقی، زور سے بارش برسانے والا بادل۔ ــ من الشرب: پوری سیرابی والا۔ کہا جاتا ہے: شربت شربًا رَوِیًّا: میں نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا۔ مـاءٌ رَوِیّ: سیراب کرنے والا بہت پانی۔ کہا جاتا ہے: کأسٌ رَوِیَّۃ: سیراب کن پیالہ۔ الرَّوِیَّۃ: الرَّوِیّ کا مؤنث۔ الرُّوَاء: خوش منظری (کہا جاتا ہے: رجُلٌ له رُوَاءٌ: خوش منظر مرد)، چہرہ کی آب و تاب۔ الـرَّوَاء: سیراب کرنے والا بہت پانی، میٹھا پانی۔ الـرِّیّ: سیرابی خوش حالی، نعمت کی فراخی و فراوانی۔ الرِّیَّۃ: روی سے اسم النوع۔ عینٌ رَیَّۃ: بہت پانی والا چشمہ۔ کہا جاتا ہے: مـن ایـن رَیَّتُـکُـم: تم پانی کہاں سے لاتے ہو۔ الـرَّیَّان مؤنث رَیَّـا جمع رِوَاء: سیراب (کہا جاتا ہے: فلانٌ رَیَّانٌ مِنَ العلم و هم رِوَاءٌ منه: فلاں شخص بہت علم والا ہے، وہ بہت علم والے ہیں)۔ سرسبز ٹہنی۔ وجهٌ رَیَّانٌ: پر گوشت چہرہ۔

۴۔ رَوَّی فی الامر: کسی امر میں سوچ بچار کرنا۔ تَرَوَّی تَرَوِّیًا: غور و فکر کرنا۔ الرَّوِیّ: تندرست، سالم العقل اور صحیح البدن۔ الرَّوِیَّۃ: کسی امر میں سوچ بچار، غور و فکر۔

۵۔ الـرَّیَّـا: عمدہ خوشبو۔ الـرِّیَّۃ (ع ا): پھیپھڑا رِیَّۃُ البـحـر: ایک سمندری جانور۔ الـرَّوِیّ: قافیہ کا حرف۔ الـرَّوِیَّۃ: حاجت، قرض وغیرہ کا بقیہ۔ الأُروِیَّۃ والإِروِیَّۃ جمع أَرَاوِیّ و أَرَاوٍ و أَروَی (ح): پہاڑی بکری (مذکر و مؤنث)۔

○ رَوِیَ ۔ رَیًّا و رِیًّـا: جی بھر کر پینا، پیاس بجھانا، سیراب ہونا۔ رَوَی ۔ علی/ل: کو پانی لا کر دینا۔ ــ ہ: کو پانی دینا۔ رَوَی ۔ رِوَایَۃً ہ ل: کو کچھ بتانا، سے کچھ بیان کرنا۔ ــ ہ: کچھ بیان کرنا، کی اطلاع دینا، خبر دینا، کی رپورٹ کرنا، کی رپٹ لکھوانا، کا حال بیان کرنا۔ ــ ہ عن: کو کے حوالے سے نقل کرنا۔ ــ عن: کا حوالہ دینا یا پیش کرنا، سے اقتباس پیش کرنا۔ رَوَّی ہ: کی پیاس بجھانا۔ ــ ہ: کو پانی دینا، کی آبپاشی کرنا، آبیاری کرنا۔ أَروَی ہ: کو پانی دینا، کی پیاس بجھانا۔ ــ ہ: پھولوں وغیرہ کو پانی دینا۔ ــ ہ: کو تر کرنا، بھگونا۔ تَرَوَّی ہ عن: کو سے حاصل کرنا، نکالنا۔ ــ فی: پر غور کرنا، پر غور و فکر کرنا۔ اِرتَوَی: اپنی پیاس بجھانا، پینے کے لئے پانی ساتھ رکھنا، پینے کو پانی دیا جانا، پانی دیا جانا، آبپاشی کیا جانا، آبیاری کیا جانا، کسی سند سے معلومات حاصل کرنا۔ رِیّ: (پیاس) بجھانا۔ رِیّ و رَیّ: پانی دینا، آبپاشی۔، آبیاری، تر کرنا، بھگونا۔ رَیًّا: خوشبو۔ رَوِیّ: پیاس بجھانے والا۔ رَوِی: قافیہ کا حرف، قافیہ۔ ذو رَوِیٍّ واحـد: یکسانی کے باعث اکتا دینے والا (گیت)۔ رَوَاء: تازہ (پانی)۔ رُوَاء: دلکشی، جاذبیت، خوبصورتی، مرغوب شکل۔ رَوِیَّۃ: سوچ بچار، غور و فکر، تامل، غور۔ عـن رَوِیۃ: دیدہ و دانستہ، جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، قصداً، ارادۃً، ارادے سے۔ عَنْ غیـرِ رویۃٍ: تیاری کے بغیر، بیساختہ، اتفاقاً، یونہی۔ رِوَایَۃ جـمـع روَایَات: کہانی، رپورٹ، سرگذشت، کیفیت، تفصیل، ناول، کھیل، ڈرامہ، فلم۔ رِوَایَۃٌ مُحْزِنَۃٌ: حزنیہ، المیہ، ٹریجڈی۔ روایۃ مسـرحیۃ: سٹیج پلے۔ روایۃ سینمائیۃ: فلم۔ روایۃ مُضحِکۃ: طربیہ، دلچسپ قصہ۔ روایۃ غِنَـائِیۃ: غنائیہ، اوپرا (opera)۔ روایۃ قِصَصِیۃ یا قَصَصِیۃ: ناول۔ روایۃ تمثیلیۃ: ڈرامہ، کھیل۔ روایۃ نـاطقۃ: گویا فلم۔ روایۃ هَزْلِیَۃ: طربیہ، مزاحیہ۔ روَائی: ناول نگار، ڈرامہ نویس، تمثیل نگار، مصنف، قلمکار۔ رَیَّان مونث رَیَّا جمع رِوَاء: پانی سے سیراب، اچھی طرح پانی دیا ہوا، خوب آبپاشی کیا ہوا، خوب آبیاری کیا ہوا، بافراط پیدا ہونے والا، گھنا اور طراوت والا، ہرا بھرا، سرسبز، گول مٹول، بھرا بھرا (چہرہ)، رس بھرا، رسیلا، تازہ، خوبصورت، حسین۔ تَـروِیۃ: سوچ بچار، غور و فکر، غور۔ إِروَائی: آبپاشی کا، آب پاشی کیا ہوا۔ تَرَوٍّ: سوچ بچار، غور و فکر، غور۔ راوٍ جـمـع رَاوُون و رُوَاۃ و رَاوِیَۃ جمـع رَوَایَا: قدیم عربی شاعری کا بالخصوص) بیان کنندہ، راوی، کہانی کہنے والا، روایات بیان کرنے والا۔ مَـروِیَّـات: کہانیاں، قصے، روایات۔

راب: ا۔ رَابَ ۔ رَیبًـا ہُ: کو شک یا تہمت میں ڈالنا، بداعتمادی میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا۔ أَرَابَ إِرَابَۃً ہُ: کو شک میں ڈالنا، پر تہمت لگانا، پریشان کرنا۔ ــ الرَّجلُ او الامرُ: قابل شک ہونا۔ کہا جاتا ہے: أَرَابَهُ منه امرٌ: اس نے اس کے ساتھ بدگمانی کی اور تہمت کا یقین نہیں کیا۔ اِرتَـابَ اِرتِیَـابًـا من الشیء: کسی چیز میں شک کرنا۔ ــ بفلان: کسی پر تہمت لگانا۔ اِستَرَابَ اِستِرَابَۃً: شک میں پڑنا، کسی سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔ الـرَّیب: شک، بے اعتقادی، تہمت۔ الرِّیبَۃ جمع رِیَب: شک، تہمت، بے چینی، بے کلی۔

۲۔ رَابَ ۔ رَیبًـا ہُ: کسی میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھنا۔ کہا جاتا ہے: فـلانٌ لا یـریبُه احدٌ بشیء: فلاں شخص پر کوئی اعتراض نہیں کرتا اور نہ اسے پریشان کرتا ہے۔ أَرَابَ إِرَابَۃً ہُ: کو پریشان کرنا، بے قرار کرنا۔ تَـرَیَّبَ تَرَیُّبًا منه: سے خوف زدہ ہونا، ڈرنا۔ ــ بِهِ: کسی سے کوئی شک میں ڈالنے والی بات دیکھنا۔ اِرتَـابَ اِرتِیَـابًا بـفلان: کسی میں کوئی شک میں ڈالنے والی بات دیکھنا۔ اِستَـرَابَ اِستِرَابَۃً به: کسی سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔ الرَّیب: حاجت، ضرورت۔ رَیـبُ الـمنون: نصیب کا ناقابل پیشین گوئی پلٹا، ڈراؤنا انجام، بدنصیبی، بدبختی۔ الـرِّیبَۃ جـمـع رِیَـب: بے کلی، بے چینی۔ امرٌ رَیَابٌ: ڈرانے والا معاملہ۔

○ رَابَ ۔ رَیبًـا ہ: کو کے بارے میں پریشان کرنا، بے چین کرنا، بے آرام کرنا، ڈرانا، گھبرا دینا، دہشت زدہ کرنا، شک و شبہ، بدگمانی یا اندیشہ میں ڈالنا۔ ــ ہ ان: کو کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کا باعث ہونا یا کچھ کرنے سے پہلے ہچکچاہٹ میں ڈالنا۔ ــ ہ: کو بے چین کرنا، پر شک و شبہ ڈالنا، کو شک و شبہ کی روشنی میں دیکھنا۔ ــ ہ: میں شک و شبہ کرنا۔ أَرَابَ ہ: کو پریشان کرنا، بے چین کرنا، بے آرام کرنا، ڈراؤنا، گھبرا دینا، چونکا دینا، شک و شبہ، بدگمانی یا اندیشہ میں ڈالنا۔ تَـرَیَّبَ فی/ب: کے بارے میں شکوک یا اندیشے رکھنا، شبہ کرنا۔ اِرتَابَ: مشتبہ ہونا، مشکوک ہونا، دھوکے یا فریب کا شبہ کرنا۔ ــ فی/ب: پر شبہ کرنا، شک کرنا، بے اعتباری کرنا، کو شبہ کی نظر سے دیکھنا، کو مشکوک سمجھنا، کو ماننے میں پس و پیش کرنا، کا امتحان کرنا، پر شک و شبہ کرنا، کی صحت میں شک کرنا،

معترض ہونا، کے بارے میں شکوک وشبہات یا اندیشے رکھنا۔ بین: کے مابین پس وپیش کرنا۔اِستراب فی: کے بارے میں شک کرنا۔۔۔۔ مشتبہ ہونا، مشکوک ہونا، اندیشے اور وسوسے رکھنا، شکوک وشبہات کو دل میں جگہ دینا یا ذہن میں رکھنا۔رَیب: شک، شک وشبہ، بدگمانی، اندیشہ، تذبذب، غیر یقینی حالت۔ بلاریب: بلاشبہ، بیشک، یقیناً، غالباً۔لارَیبَ فیه: اس کے متعلق کوئی شک وشبہ نہیں۔رِیبَة جمع رِیَب: شک وشبہ، شبہ، بدگمانی، بے اعتمادی۔ارتیاب: شک وشبہ، شبہ، بدگمانی، بے اعتمادی، عدم اعتماد۔مُریب: شک وشبہ ابھارنے والا، مشتبہ، شکی۔مُرتاب: شک و شبہ کرنے والا، مشکوک، مشتبہ، شکی، شک وشبہ کی نظر سے دیکھنے والا، متشکک۔مرتاب (فیه یا به): جس میں شک وشبہ ہو، مشکوک، مشتبہ، مشکوک چال چلن کا، شکی۔مرتابٌ فی أمرِہ: مشتبہ، مشکوک چال چلن کا، جس پر غلط کاری کا شبہ ہو۔مُستریب فی: کے بارے میں مشکوک، مشتبہ۔۔۔۔ مشتبہ، شکی۔ مُستراب (فیه): مشتبہ، شکی۔

راث: اراثَ - ریثاً: دیر کرنا، تاخیر کرنا۔ریّثَ: تھکنا۔کہا جاتا ہے: رَیّثَ عما کان علیه: وہ اپنی پہلی حالت تک پہنچنے میں قاصر رہا۔اَراثَ اِراثَةً ہٗ: کو دیر کرانا۔ترَیّثَ: دیر کرنا، تاخیر کرنا۔استراثَ اِستراثَةً ہٗ: کو دیر کرنے والا پانا یا سمجھنا۔الرَیث: زمانہ کی مہلت کا عرصہ یا مقدار۔کہا جاتا ہے: وقف رَیثَما صَلّینا: وہ ہمارے نماز پڑھنے تک ٹھہرا رہا۔ ماقعدتُ عندہ الّا رَیثَ اعقدُ شِسعِی: میں اس کے پاس صرف اتنا عرصہ بیٹھا کہ اپنی جوتی کا تسمہ باندھ لوں۔اس سے ضرب المثل ہے: رُبَّ عجلةٍ أعقبتْ رَیثاً: بسا اوقات جلدی کرنا تاخیر کرنا کا باعث ہوتا ہے۔الرَیِّث: دیر کرنے والا۔رجلٌ مُریّثُ العینین: کمزور نظر والا مرد۔

۲۔رَیّثَ الشیءَ: کو نرم کرنا۔

○ رَاثَ - رَیثاً: ہچکچانا، پس وپیش کرنا، تاخیر کرنا، دیر لگانا، دیر میں آنا یا پہنچنا۔تریّثَ: ہچکچانا، پس وپیش کرنا، تاخیر کرنا، دیر لگانا، دیر کرنا، سست ہونا، کاہل ہونا۔۔۔ فی/ب: پر طویل اور مکمل غور وخوض کرنا۔۔۔۔ رکنا۔۔۔ فی: کسی جگہ ٹھہرنا، کسی جگہ کے چکر لگاتے رہنا۔۔۔۔ صبر کرنا، موقع کی تاک میں ہونا، موقع کا انتظار کرنا۔ دفع الوقتی کرنا، انتظار کرنا۔ رَیثما: جب تک، کے دوران میں، جب، جب تک کہ تک۔

راخ: رَاخَ - رَیخاً و رَیَخاناً و رُیُوخاً: ذلیل ہونا، ڈھیلا ہونا۔ریّخَ ہٗ: کوست کرنا، کمزور کرنا۔ المَریخ جمع امْرِخَة: سینگ کے جوف میں پائی جانے والی چھوٹی سی نازک ہڈی۔

○ رَیخ: جرمنی کی جمہوری حکومت، جمہوریہ جرمنی Reich: جرمنی کی (سابقہ) ریاست یا مملکت۔

راس: رَاسَ - رَیساً و رَیَساناً: متکبرانہ چال چلنا۔۔۔ الشیءَ: کی پوری حفاظت کرنا۔۔۔ القومَ: پر غالب آنا، برتری حاصل کرنا۔الرّیِّس: قوم کا سردار جیسے سربراہ۔

○ رَیِّس: بمعنی رئیس۔میٹ (mate)، کپتان سے نیچے بحری جہاز کا ایک افسر۔رَیِّس ممتاز: درجہ سوم کا چھوٹا افسر (بحریہ کا ایک منصب)۔رِیاسَة بمعنی رئاسة: دیکھو رأس۔رِیَاسِی: صدارتی۔

راش: اراشَ - رَیشاً: مال وسامان جمع کرنا، مال دار ہو جانا، امیر ہو جانا۔رجلٌ رَاشٌ: مالدار آدمی۔ الرَیش: سامان واسباب۔الرِیش: مال، سرسبزی۔الریَاش: عمدہ سامان واسباب، مال، سرسبزی۔رجلٌ أرْیَش: مال ولباس والا۔

۲۔راشَ - رَیشاً السهمَ: تیر میں پر لگانا۔۔۔ ہٗ: کو کھلانا، پہنانا، روٹی کپڑا دینا، کی مدد کرنا، کو مالدار بنانا۔۔۔ ہٗ مالاً: کو مال دینا۔۔۔ من حالہِ: کے حال کی اصلاح کرنا۔کہا جاتا ہے: فلانٌ لایریش و لایَبْری: فلاں شخص نہ نقصان دہ ہے نہ نفع رساں۔ لاتَرِشْ علَیّ: میرے کلام میں دخل نہ دو۔ریّشَ السهمَ: تیر میں پر لگانا۔۔۔ السقمُ فلاناً: بیماری کا کسی کو کمزور کر دینا۔اَراشَ السهمَ: تیر میں پر لگانا۔تریّشَ: آسودہ حال ہونا۔ارتَاشَ: آسودہ حال ہونا۔۔۔ السهمَ: تیر میں پر لگانا۔ الرّاش جمع اَریَاش: پرندے کا پر۔طیرٌ راش مونث راشَة: پر نکلا ہوا پرندہ۔رمحٌ راش: کمزور تیر۔ جملٌ راش: کمزور اونٹ۔کلاءٌ ریش و رَیِّش: بہت پتوں والی گھاس۔الرِیش واحد رِیشَة جمع رِیاش و اَریاش: پرندے کے پر، فاخرانہ لباس، معاش۔رِیشة (مو): مضراب پر کا قلم، چونچ کی شکل کی دھات جو لکھنے کے کام میں آتی ہے۔ب۔الریَش: کان یا چہرے پر کے گھنے بال۔ الرائش: پر لگا ہوا تیر، رشوت کا دلال۔الرِیاش من النوق: کانوں اور چہرے پر گھنے بالوں والی اونٹنی۔الرِیاش: لباس فاخرہ، معاش۔الأریَش مونث رَیشاء جمع رِیش: کانوں یا چہرے پر بہت بال رکھنے والا۔الرَّیّاش: تیروں پر پر لگانے والا۔المَریش من السهام: پر لگا ہوا تیر۔المُریّش: بہت بالوں والا، کم گوشت والا، کمزور پشت والا۔۔۔ من السهام: پر لگا ہوا تیر۔۔۔۔ من الرجال: شاہی اعزاز کا پر پگڑی میں رکھنے والا۔البُرد المُرَیّش: وہ چادر جس پر پروں کی تصویریں بنی ہوئی ہوں۔

○ رَاشَ - رَیشاً ہٗ: پر پر لگانا، کو پروں سے آراستہ کرنا۔۔۔ اپنا گھر بھرنا، دولتمند ہو جانا۔ریّشَ ہٗ: کو پروں سے آراستہ کرنا، پر لگانا یا جانا، پرندہ کا پر اُگانا۔تریّشَ: (پرندہ کا) پر اگانا، دولتمند ہو جانا۔ رِیش: (اسم جنس واحد رِیشَة) جمع رِیَاش و أریَاش: پرندوں کے پر، پر، پنکھ، پرندے کے بال و پر، ملبوسات، کپڑے، خارجی شکل، (برش وغیرہ کے) کڑے بال۔رِیشَة جمع رِیشات: پر، پر جس کا قلم بناتے ہیں، بڑا پر، پر کا قلم، لکھنے کا قلم (نیز ریشة الکتابة)۔ (مصور کا) برش، مضراب، نشتر، (بانسری وغیرہ کا) نرکل، ایک قسم کی لے، دوہری بانسری۔وزن الرِیشَة: ڈیڑھ من سے کم کا کے باز۔ رِیشی: پر کا، پروں کا، پر لگا ہوا، ہوا کا سا تیز، پروں سے سجا ہوا، پروالا، پردار، پر کی شکل کا۔رِیَاش: گھریلو سامان، فرنیچر، ساز وسامان۔

ریط: الرَیطَة جمع رَیط و رِیاط: ایک پاٹ کی چادر ہر چادر نما کپڑا، کفن۔الرائطة: ایک پاٹ کی چادر، ہر چادر نما کپڑا، کفن۔

راع: رَاعَ - رَیعاً و رُیُوعاً و رِیاعاً و رَیَعاناً۔ الشیءُ: نشو و نما پانا، زیادہ ہونا، بڑھنا۔۔۔ الزرعُ: کھیتی کا بڑھنا۔ریّعَ الطعامُ: بڑھنا، زیادہ ہونا۔۔۔ الطعامَ: کھانے کو بڑھانا، زیادہ کرنا۔اَراعَ اِراعَةً الزرعُ: فصل کا بڑھنا۔۔۔ اللّٰهُ الزرعَ: اللہ تعالیٰ کا فصل کو بڑھانا۔۔۔ القومُ: قوم کی فصل کا نشو و نما پانا اور بڑھنا۔۔۔ ت الإبلُ: اونٹوں کا کثیر الاولاد ہونا۔تریّعَ ت یداہُ بالجود: بخشش کا ہاتھ کھولنا۔اِستراعَ اِستراعَةً ت یداہُ بالجود: بخشش کا ہاتھ کھولنا، سخاوت کی داد دینا۔الرَیع: ہر چیز کی زیادتی۔(کہا جاتا ہے: لیس لهُ رَیعٌ: اس کے لئے پیداوار نہیں، غلہ نہیں)۔۔۔ من کل شیءٍ: ہر چیز کا اول اور بہتر حصہ۔۔۔ من الضحی: چاشت کے وقت کی روشنی۔۔۔ من الدِرعِ: زرہ کے دامن اور آستین کی زیادتی۔الرَیعان من کل شیءٍ: ہر چیز کا اول اور عمدہ حصہ۔جیسے آغاز شباب۔ناقة رَیعانة

و مِرْيَاع: بہت دودھ دینے والی اونٹنی اور جلد دودھ دینے والی۔ مطرٌ مُرِيْعٌ: سرسبزی اور خوشحالی لانے والی بارش۔ ارضٌ مَرِيعَة: سرسبزی والی زمین۔

۲۔ رَاعَ - رَيْعًا السرابُ: سراب کا حرکت کرنا۔ ـــ منه: سے ڈرنا۔ ـــ عنه و اليه: کی طرف لوٹنا، واپس آنا۔ کہا جاتا ہے: هربت الابلُ فصاح لها الراعى فراعت اليه: اونٹ بھاگ پڑے، چرواہے نے انہیں پکارا تو اس کے پاس واپس آگئے۔ فلانٌ لايَرِيعُ لكلامِك: فلاں شخص تمہاری بات نہیں مانتا۔ تَرَيَّعَ: مضطرب ہونا۔ ـــ السرابُ: سراب کا کبھی ظاہر ہونا اور کبھی ناپید ہونا۔ السرَيْع (مص): سراب کی حرکت، خوف۔ رَيْعَانُ السراب: متحرک سیراب۔

۳۔ رَبَّعَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ تَرَبَّعَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا۔ الرِيْعَة: اکٹھی جماعت۔

۴۔ تَرَيَّعَ: ٹھہرنا، حیران ہونا۔ اِستَرَعَ استراعةً: حیران ہونا۔

۵۔ تَرَيَّعَ الماءُ: پانی کا جاری ہونا۔ الرِيْع جمع رِيَاع و رُيُوع و ارْيَاع: وادی کی بلندی سے پانی بہنے کی جگہ۔

۶۔ الرِيْع جمع رِيَاع و رُيُوع و ارْيَاع: بلند ٹیلہ، اونچی جگہ، کشادہ پہاڑی راستہ، گرجا، کبوتروں کا برج۔ الرِيْعَة: بلند زمین۔

○ رَاعَ - رَيْعًا و رُيُوعًا و رِيَاعًا و رَيَعَانًا: زیادہ ہونا، بڑھنا، پھلنا پھولنا، سرسبز ہونا، پنپنا، فروغ پانا۔ رَيَّعَ ه: کو زیادہ کرنا، بڑھانا۔ رَيْع جمع رُيُوع: پیداوار، فصل، نفع، منافع، آمدنی، محاصل، بکری، (زمینداری سے) آمدنی، سود، حق ملکیت کا معاوضہ: اول نمبر، سب سے اچھا، بہترین، انتہائی پسندیدہ حصہ۔ رَيْعُ الشباب: عنفوان شباب۔ رَيْعَان: اول نمبر، سب سے اچھا، بہترین، انتہائی پسندیدہ حصہ۔ فی ريعان الشباب: عنفوانِ شباب میں۔ في رَيْعان النهار: دن دیہاڑے۔ ارضٌ مَرِيْعَة: بارآور، زرخیز یا پیداواری زمین۔ تَارِيع: غیر منقولہ جائداد کے متعلق زمین کی پیمائش۔ مِساحَةُ التاريع: مساحت۔ رَائِعة: فی رَائِعةِ النهار: دن دیہاڑے۔

راف: ۱۔ رَافَ - رَيْفًا: سرسبز زمین میں آنا۔ ـــ تِ الماشيةُ: مویشی کا سبزہ چرنا۔ اَرَافَ اِرَافَةً المكانُ: کسی جگہ کا سرسبز ہونا۔ اَرْيَفَ اِرْيَافًا: سرسبز زمین میں آنا۔ ـــ المكانُ: کسی جگہ کا سرسبز ہونا۔ تَرَيَّفَ: سرسبز زمین میں آنا، الرِيْف جمع اَرْيَاف و رُيُوف (ز): کھیتوں والی اور سرسبز زمین۔ اسی سے ہے مصر کی مشہور کھیتوں والی سرسبز زمین (یعنی ریف مصر) پانی کے قریب کی زمین، کھانے پینے کی فراخی و فراوانی۔ مكانٌ رَيِّف مؤنث رَيِّفَة: زرخیز، بار آور، سرسبز جگہ۔

۲۔ رَايَفَ مُرَايَفَةً لِلظِنَّة: تہمت کے قریب ہونا۔

۳۔ الرَاف: شراب۔

○ رِيْف جمع اَرْيَاف: زرخیز، کاشت شدہ زمین سرسبز اور اچھی فصل دینے والی زمین، دیہات، مفصلات، دیہاتی علاقہ، دیہات کا علاقہ۔ الرِيف یا رِيفُ مِصر: پست تر مصر۔ ساحل الريف: شمال مشرقی مراکش کا ساحلی اور پہاڑی علاقہ۔ رِيْفِي: دیہاتی، گنوار، اجڈ، دیہاتی علاقہ کا کسان، کاشتکار، تنگدلانہ، باہم مربوط، گنوار، گھامڑ، کندہ، ناتراش، مراکش کے ریف کا باشندہ۔

راق: ۱۔ رَاقَ - رَيْقًا الماءُ على وجه الارض: پانی کا سطح زمین پر بہہ پڑنا۔ ـــ السرابُ: سراب کا زمین پر چمکنا، حرکت کرنا۔ ـــ الشيءُ: چمکنا۔ رَيَّقَ هُ الشراب: کو صاف شراب پلانا۔ اَرَاقَ اراقةً الماءَ: پانی گرانا۔ تَرَيَّقَ السرابُ: سراب کا چمکنا، حرکت کرنا۔ الرَيْق (مص): پانی، باطل۔ الرائِق (فا): خالص، صاف۔

۲۔ رَاقَ - رَيْقًا و رُيُوقًا بنفسه: جان دینا۔

۳۔ الرَيْق من كل شیء: ہر چیز کا اول اور بہتر یا عمدہ حصہ۔ خُبزٌ رَيْقٌ: بغیر سالن کے روکھی روٹی۔ الرِيْق جمع اَرْيَاق و رِيَاق: تھوک (کہا جاتا ہے: انی علی الريق: میں نے ابھی تک کوئی چیز نہ کھائی ہے نہ پی ہے یعنی نہار منہ ہوں۔ شربتُ علی الرِيق و علی رِيقِ النفس او رِيْقَةِ النفس: میں نے نہار منہ پیا یعنی کچھ کھانے سے پہلے پیا) قوت، بقیہ جان۔ الرِيْقَة: تھوک۔ الرَائِق: نہار منہ والا، تہی دست۔ الماءُ الرائِقُ: نہار منہ پیا جانے والا پانی۔ خبزٌ رَائِق: روکھی روٹی۔ الرَيِّق: نہار منہ والا۔ ـــ والرَيُّوق من كل شیء: ہر چیز کا اول اور عمدہ حصہ۔ التَرْوِيْقَة: صبح کو کھائی جانے والی چیز (عام لوگوں کی زبان میں)۔

○ رَاقَ - رَيْقًا: چمکنا، روشن ہونا، دمکنا، تمتمانا، جلنا، بہنا، گرنا۔ اَرَاقَ: بہانا، گرانا۔ رِيْق و رِيْقَة جمع اَرْيَاق: تھوک، لعاب دہن۔ علی الرِيق: ناشتہ سے قبل، نہار منہ، خالی پیٹ۔ بَلَعَ رِيقَهُ و اِبْتَلَعَ رِيقَهُ: اپنا تھوک نگلنا، دم سادھ لینا، تھوڑی دیر کے لئے آرام کرنا، تھوڑا سا وقفہ کرنا، غصہ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ بَلَّعَهُ رِيقَهُ: کو وقفہ کرنے دینا، کو دم سادھ لینے دینا۔ اَجْرَى الريقَ: تھوک بہانا، منہ میں پانی آجانا، بھوک تیز کرنا۔ لايَجِفُّ له رِيقٌ: وہ بولتے تھکتا نہیں، وہ لگاتار بولتا ہے۔ رَيِّق: فی رَيِّقِ الشباب: جوانی کے پورے جوبن میں۔

رال: رَالَ - رَيْلًا الصبیُّ: بچہ کے منہ سے رال ٹپکنا۔ الرِيَال: ریال، چاندی کا بڑا سکہ۔ (ہسپانی لفظ)۔

○ رَالَ - رَيْلًا و رَيَّلَ: رال بہانا، رال بہنے دینا، رال ٹپکانا۔ مَرْيَلَة: پیش بند۔ مَرْيُول: شلوکہ، بب (bib)۔

رام: ۱۔ رَامَ - رَيْمًا حملُ البعير: اونٹ کے بوجھ کا جھکنا۔ ـــ عنه: سے دور ہونا۔ ـــ المكانَ و منه: کسی جگہ سے جدا ہونا۔ کہا جاتا ہے: مارام يفعل كذا: وہ ایسا کرتا رہا۔ اس کا عمل ''کان'' جیسا ہوتا ہے۔ ـــ رَيْمًا و رَيَمانًا الجرحُ: زخم کا بھرنا، مندمل ہونا۔

۲۔ رَامَ - رَيْمًا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا، رہنا۔ رِيْمَ به: چھوڑ دیا جانا۔ رَيَّمَ تَرْيِيمًا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـــ تِ السحابةُ: بادل کا چھایا رہنا۔

۳۔ رَيَّمَ تَرْيِيمًا على كذا: میں بڑھنا۔ الرَيْم: فضل و زیادتی۔ آپ کہتے ہیں: فی هذا العِدْلِ رَيْمٌ على الآخر: یہ بورا دوسری طرف کے بورے سے بھاری ہے۔

۴۔ الرَيْم: پہاڑی، قبر، قبر کا درمیان، تاریکی چھانے تک دن کا آخری حصہ، وقت کا لمبا عرصہ، لمبی گھڑی، سیڑھی کا درجہ۔ ـــ والرِيم (ح): خالص سفید ہرنی۔

○ رَامَ - رَيْمًا: دور ہونا، حرکت میں آنا، ہٹنا، سرکنا، ہلنا۔ ـــ ه: کسی جگہ کو چھوڑ دینا، چھوڑ جانا۔ مارامَ مكانَهُ: اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، نہ حرکت کرنا۔ رَيَّمَ بالمكان: کسی جگہ ٹھہرنا، رہنا۔ ـــ علی: پر دھونس جمانا۔ رِيم: جھاگ، کف۔ تَرْيِيم: دھونس جمانا، رعب جمانا، تحکمانہ انداز اختیار کرنا، دھوکہ، ٹھگی۔ رِيم بمعنی رئم: سفید بارہ سنگھا۔

ران: ۱۔ رَانَ - رَيْنًا و رُيُونًا الشیءُ فلانًا و عليه و به: پر غالب آنا۔ آپ کہتے ہیں: رَانَ هواه على قلبه: اس کی خواہش نے اس کے دل پر غلبہ پالیا۔

ـ ثَ نفسُهُ: جی کا بگڑنا، متلانا۔ ـ الموتُ علیه و بـه: کوموت آجانا۔ رِیْنَ بِه: مرنا، ایسی مشکل میں پڑنا جس سے نکل نہ سکے، غم میں پڑنا۔ اَرَانَ اِرَانَةً الـقـومُ: قوم کا ہلاک شدہ مویشیوں والا ہونا صفت: مُـرِیْـنُـون۔ الـرَّیْن: میل کچیل، زنگار۔ الرَّیْـنَة: شراب۔ رجُلٌ مَرِیْنٌ علیه: گھرا ہوا۔
۲۔ الران: موزہ نما جوتہ۔

ﺊ رَانَ - رَیْـنًا ہ / عـلـی و بہ: پر قابض ہونا، قبضہ کرنا۔ ـ ہ/ب/علی: جذبہ کا کسی پر گرفت کر لینا، کو مغلوب کر لینا۔ ـ علی: پر آ پڑنا، ٹوٹ پڑنا، پر چڑھ دوڑنا۔ ـ علی: (خاموش وغیرہ کا ایک کمرے میں) طاری ہونا، عام ہونا۔

راہ: رَاہَ - رَیْہًـا الـرجـلُ: آنا جانا، آمد و رفت کرنا۔ رَیَّہَ تَـرْیِیْہًا الرجلَ: کو آمد و رفت کرانا۔ تَـرَیَّہَ الـسرابُ: سراب کا کبھی چمکنا کبھی بجھنا۔

ریی: رَیَّی الرایةَ: جھنڈا بنانا۔ اَرْیَـی اِرْیَاءً الرایةَ: جھنڈا گاڑنا۔ الرَّایَة جمع رَایَات و رایٌ: نصب شدہ نشان، لشکر کا جھنڈا، علم، لوا سے بڑا ہوتا ہے اور اسکی کنیت اُمّ الحرب ہے۔ الرَّیّ: ملک فارس میں ایک شہر ہے۔ نسبت کے لئے الرازی آتا ہے۔ عـیـنٌ رَیَّةٌ: بہت پانی والا چشمہ، (دیکھو روی)۔ الـرِیّ: خوش منظر، خوش شکل۔ کہا جاتا ہے: لِـفُـلانٍ رِیٌّ حسنٌ: فلاں شخص خوش شکل ہے۔

ز

ز: تلفظ زاء: حروف تہجی کا گیارہواں حرف اس کا تلفظ زبان کی نوک سے کیا جاتا ہے۔ حروف ابجد میں اس کا عدد سات (۷) ہے۔

زأب :ا- زَأَبَ - زَأباً : بے تحاشا پینا۔ الدهرُ به : زمانہ کا پھرنا۔ الماشيةَ : مویشیوں کو ہانکنا۔ بحمله : کا بوجھ کھینچنا۔ زأب و ازدأبَ ازدِئاباً القربةَ : پانی کی مشک کو دوڑ کر لے آنا۔

○ زاؤوق: پارہ، سیماب۔

۲- زَأبَرَ الثوبُ : کپڑے کا روئیں دار ہونا۔ الثوبَ : کپڑے کا رواں نکالنا۔ الزِئبَرُ و الزُؤبُرُ و الزِوبَرُ : کپڑے کا رواں کہا جاتا ہے۔ ذهبتِ الايام بنضارتهِ ونفضت زِئبرَه : زمانہ اس کی رونق لے گیا اور اس کے روئیں کو جھاڑ دیا یعنی اس کا زمانہ پرانا ہوگیا۔

۳- زَأبَقَ الشیءَ : (پر) پارہ کی قلعی کرنا۔ الزِئبق والزِئبِق (ك) : پارہ، عوام اسے "ذِئبَق" کہتے ہیں۔ اس کی علامت Hg ہے۔ (فارسی لفظ ہے)۔

زأج : زَأَجَ - زَأجاً بينهم : (میں) پھوٹ ڈالنا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانا۔ ایک کو دوسرے پر مسلط کرنا۔

○ زَاج: گندھک کا تیزاب۔

زأد: زَأدَه - زَأدًا و زَأَدًا و زُؤدًا و زُؤُدًا ہ: (کو) خوف زدہ کرنا۔ الزُؤد و الزُؤُد: گھبراہٹ۔ ليلةٌ مَزؤودة: خوف اور گھبراہٹ کی رات۔

زأر: زَأَرَ -- زَئِرَ - زَئيراً وزَأرًا و تزآرًا و أزار ازآراً و تزأّر الأسدُ : شیر کا دھاڑنا۔ زَئِر و زائر و مُزئِر : دھاڑنے والا۔ و- الفحلُ : سانڈ کا آواز کو گڑگڑانا۔ الزَأرَة : ایک بار کی دھاڑ، جنگل، جھاڑی، باغ۔ من الابل والغنم : اونٹوں اور بکریوں کا گنجان ریوڑ۔

○ زَئير : گرج، دھاڑ، ڈکار۔

زأز :ا- زَأزَأَ : سر اور دم اٹھا کر جلدی جلدی چلنا۔ و- الشیءَ : (کو) حرکت دینا۔ تَزَأزَأَ : پہلو ہلاتے ہوئے چلنا۔ و- الشیءُ : کسی چیز کا حرکت کرنا اور ادھر ادھر ہلنا۔

۲- زَأزَأَهُ : کو خوف زدہ کرنا۔ تَزَأزَأَ : ڈر کر چھپ جانا۔ و- منه : (سے) ڈر کر عاجزی کرنا۔

○ زَأَطَ -- زِئاطاً : چلانا، شور مچانا، گلا پھاڑ پھاڑ کر یا چیخ چیخ کر کہنا۔

○ زاغ جمع زِغان: کوا

زأف :ا- زَأَفَ - زَأفاً ہ : (سے) جلدی کرانا۔ إزْأَفَ إزْآفاً عليه : (زخمی کو ختم کر دینا۔ (کو ختم کرنا اور تباہ کرنا۔ الزُؤاف : جلدی کرانا۔ موتٌ زُؤافٌ : جلد موت۔

۲- ازْأَفَه بطنُهُ : کو پیٹ کا بوجھ ڈال کر حرکت نہ کرنے دینا۔

زأك: زَأكَ - زَأكاناً : مٹک کر چلنا۔ تَزَاءَكَ تزاؤكاً منه : سے شرمانا، حیا کرنا۔

زأم :ا- زَأَمَ - زَأماً و زُؤاماً : جلدی سے مرجانا۔ الموتُ الزُؤام : جلد موت، ناخوشگوار موت۔

۲- زَأَمَ - زَأماً و زُؤاماً : ڈٹ کر کھانا۔ الزَأمَة : بہت کھانا پینا۔ حاجت۔ من الطعام : کھانے کا کافی ذخیرہ۔

۳- زَأَمَ -- زَأماً و زُؤاماً لي كلمةً : ایسی بات منہ سے نکالنا جس کے حق و باطل کا پتہ نہ ہو۔ کہتے ہیں۔ ما زأم بحرف : یعنی وہ کچھ نہیں بولا۔ الزَأمَة : کلمہ کہا جاتا ہے: ما يعصيه زَأمَةً : یعنی وہ اس کی کسی بات میں بھی مخالفت نہیں کرتا۔

۴- زَأَمَ - زَأماً و زُؤاماً ہُ : کو ڈرانا، خوف میں مبتلا کرنا۔ و - ہُ البردُ : سردی کا کسی کو کپکپا دینا۔ زَئِمَ - زَأَماً : سخت گھبرا جانا۔ و- بفلان : (کو) چیخ کر بلانا، آواز دینا۔ زُئِمَ زَأماً و إزْدَأمَ : سخت گھبرانا۔ الزَئِم : بہت خوف زدہ۔ الزَأمَة : ہوا، کرخت آواز۔

۵- أزْأَمَهُ على الامر : (کو) پر مجبور کرنا۔ و- الجرحَ : زخم کا علاج کر کے ٹھیک کرنا۔

۶- الزِئم : آنکھ، حسب کہا جاتا ہے۔ طعنوا في زِئمِهِ : انہوں نے اس کے حسب میں عیب نکالے۔

○ موتٌ زُؤامٌ : اچانک، ناگہانی یا سخت موت۔

زأن: الزُؤان : واحد زُؤانة (ن): گیہوں سے مشابہ ایک دانہ جو گیہوں میں پیدا ہوتا ہے اور خواب آور ہے۔

○ زانة جمع زانات: نیزہ، برچھی، بلم، لاٹھی۔ الوثب (القفز) بالزانة : لاٹھی وغیرہ پہ ہاتھ رکھ کر کودنا، جست لگانا۔

زأی : زَأَى - زَأياً : تکبر کرنا۔ أزْأَى فلاناً بطنُهُ : زیادہ شکم پری کا کسی کو حرکت نہ کرنے دینا۔

زبّ :ا- زَبَّ - زَبَباً : کے چہرے اور کانوں سے بالوں کا گاڑھا ہونا۔ و- تِ الشمسُ : سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ زَبَّبَ و أزَبَّتِ الشمسُ : سورج کا غروب ہونے کے لئے جھک جانا۔ الزَبَب (مص) بالوں کی کثرت اور طوالت۔ الأزَبّ م زَبّاء : کانوں اور چہرے پر زیادہ بالوں والا مثل ہے: كلُّ أزَبَّ نفورٌ یعنی وہ اونٹ جس کے چہرے پر بہت بال ہوتے ہیں بدکنے والا ہوتا ہے۔ عامٌ أزَبُّ : زیادہ پیداوار کا سال۔ داهيةٌ زَبّاء : بڑی مصیبت۔ المُزِبّ و المُزَبّب : مال دار۔

۲- زَبَّ - زَبّاً القِربَةَ : مشک بھرنا۔ زَبَّبَ الرجلُ :

زیادہ بولنے سے منہ سے جھاگ نکلنا۔ کہتے ہیں۔ تکلم فلان حتی ذبب فمُہٗ: یعنی بولتے بولتے فلاں شخص کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ تزبّب الرجلُ: آدمی کا غصہ سے بھر جانا۔ و۔ فی الکلام: زیادہ باتیں کرنے سے اس کے منہ سے جھاگ نکل آئی۔ ازدبّتِ القربۃُ: مشک کا بھر جانا۔ الزبیۃ: جھاگ جو زیادہ بولنے والے کے منہ سے نکلنے لگتی ہے۔

۳۔ زَبَّ۔ زَبّاً الحِملَ: بوجھ اٹھانا۔

۴۔ زَبَّبَ العنبَ: انگور کو خشک کرکے میوہ بنانا۔ أَزَبَّ ازباباً العنبَ: انگور کو خشک کرنا۔ تَزَبَّبَ العنبُ: انگور کا زبیب (خشک انگور) بن جانا۔ الزبیب واحد الزَبیبۃ: خشک انگور یا انجیر۔ الزبّاب: خشک انگور اور انجیر بیچنے والا۔ الزبیبی: ایضاً، کشمش، خشک انگور کی شراب۔

۵۔ الزَبیب: سانپ کے منہ میں زہر۔ الزَبیبۃ: ہاتھ کی پھنسی۔ الزَبیبتان: سانپ کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے، اس لئے سانپ کو ذات الزبیبتین کہا جاتا ہے۔ الزَبابۃ (ح) بہرا چوہا جو چوری میں ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں۔ اسرق من زَبابۃ: زبابہ سے بھی بڑا چور۔

۶۔ زَبزَبَ: غضب ناک ہونا، جنگ میں شکست کھانا۔ الزُبزِب جمع زبازِب (ح) بلی نما ایک جانور، ایک قسم کی کشتی۔

○ زُبّ جمع ازباب: مردانہ عضو تناسل۔

○ ازَبّ م زَبّاء جمع زُبّ: بالوں سے بھرا ہوا، بالوں والا، روئیں دار جھبرا۔

زبد۔ ا۔ زَبَدَ۔ زَبْدًا ہ: (کو) مکھن کھلانا۔ و۔ السقاءَ: مشک کے دودھ کو بلو کر مکھن نکالنا۔ و۔ زَبَدًا السویقَ: ستو میں مکھن ملانا۔ و۔ لہُ: (کو) مکھن دینا۔ زَبَّدَ اللبنُ: دودھ کا مکھن لانا، دودھ پر مکھن آ جانا۔ تَزَبَّدَ الزُبدۃَ: مکھن لینا۔ و۔ الشیءَ: چیز کا مکھن یا خلاصہ لے لینا۔ (کو) نگلنا۔ و۔ الیمینَ: قسم کھانے میں جلدی کرنا۔ اس کے گناہ کے وبال کے پروا کئے بغیر۔ الزُبُد جمع زُبَد: مکھن، لوگوں کی کہاوت: اختلط زُبدُہٗ بخاثرہ کا مطلب ہے وہ اپنے معاملہ میں حیران ہوا۔ الزَبْد: داد و دہش، عطاء۔ الزُبدۃ جمع زُبَد: مکھن۔ زُبدۃُ الشیِ: چیز کا بہترین حصہ، لوگوں کے اس قول۔ کأنّ لقاءَکَ زُبدۃُ العمر: کا معنی ہے: گویا تیری ملاقات عمر کی بہترین بات ہے۔ الزُبّاد: مکھن۔ المِزبَد جمع مَزابِد: مکھن نکالنے کا آلہ، مدھانی، متھنی۔ المُزدَبِد: مکھن والا۔

۲۔ زَبَّدَ شدقُہٗ: باچھ کا جھاگ نکالنا۔ باچھوں سے جھاگ نکلنا۔ و۔ القطنَ: روئی کو دھن کر کاتنے کے قابل بنانا۔ ازبَدَ البحرُ او القِدرُ او الفمُ: سمندر یا ہانڈی یا منہ کا جھاگ نکالنا کہتے ہیں: ارغی الرجل و ازبَدَ: اس کا غصہ بھڑک پڑا اور اس نے سخت دھمکی دی۔ و۔ الشیءُ: کسی چیز کا انتہائی سفید ہونا۔ و۔ السِدرُ ونحوہ: بیری وغیرہ کا شگوفہ نکالنا۔ تَزَبَّدَ الشدقُ: باچھ سے جھاگ نکلنا۔ و۔ الرجلُ: غضبناک ہونا اور دھمکی دینا۔ الزَبَد جمع ازباد و الزَبَدۃ جمع زَبَد: جھاگ، دھاتوں کا میل، اس سے ضرب المثل ہے۔ صرّح المحضُ عن الزَبَد: اس مثل میں زبد سے دودھ پر آئی ہوئی جھاگ مراد لیتے ہیں اور اس وقت بولی جاتی ہے جب ظنی خبر کے بعد سچی بات ظاہر ہو جائے۔ بے فائدہ چیز۔ زُبّادُ اللبن: وہ چیز جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ مثل مشہور ہے۔ اختلطَ الخاثر بالزُبّاد: اچھی چیز ردی چیز سے مل گئی۔ المُزبِد (فا): جھاگ پھینکنے والا۔ بحرٌ مُزبِدٌ: متلاطم سمندر جو جھاگ پھینکے۔ المُزبِدۃ (ح) دو رنگے پروں والا کیڑا جس کے منہ سے جھاگ دار لعاب نکلتا ہے۔

۳۔ الزَبَاد: ایک بلی کے مانند جانور سے اخذ کردہ، خوشبو دار مادہ۔ و۔ وسنّورُ الزَباد و قط الزَباد (ح): ایک جانور جو اپنے سرین کے نیچے ایک تھیلی رکھتا ہے جس میں خوشبو دار مادہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ الزُبّاد: (ن) ایک قسم کا پودا۔ الزِبدِیۃ جمع زَبادیّ: مٹی کا پیالہ۔

○ زَبَدَ ــــ زُبْدًا ہ: دودھ بلونا، دودھ بلو کر مکھن بنانا۔ زَبَّدَ: جھاگ لانا یا نکالنا، جھاگ دینا، کریم بننا (دودھ کا) ازبَدَ: جھاگ خارج کرنا، جھاگ دار ہونا، جھاگ جھاگ ہو جانا، کف در دہن ہونا، غصہ میں آ جانا زَبَدٌ جمع ازباد: جھاگ، کف، پھین، فضلہ، میل۔ زبد البحر: سلی کیٹ۔ زُبدۃ: مکھن، کریم جمع زُبَد: عمدہ ترین حصہ، اعلیٰ، بہترین حصہ، ممتاز افراد، جوہر، خلاصہ، اہم نکتہ۔ زِبدِیۃ: جمع زَبادی: پیالہ، کاسہ۔ زَباد: مشک بلاؤ۔ سنور الزباد: ایک بستانی درندہ۔ زَبادی اور لبن زبادی: جمایا پھٹا ہوا دودھ۔ مِزبَد و مِزبَدۃ جمع مَزابِد: متھنی، متھانی، بلونی، مدھانی، مکھن نکالنے کی مشین۔

زبر: ا۔ زَبَرَ ــِ زَبْرًا البئرَ: کنویں کو پتھروں سے بنانا۔ و۔ البناءَ: عمارت پر عمارت اٹھانا۔ و۔ ہٗ عن الامر: کو کسی کام سے روکنا، منع کرنا۔ و۔ السائلَ: سائل کو جھڑکنا۔ و۔ الرجلَ: کو پتھر مارنا۔ الزَبْر (مص): پتھر، عقل۔ الزَبْر: عقل کہتے ہیں۔ مالہٗ زَبْرٌ: (اسے عقل نہیں)۔ الزَبُور جمع زُبُر: فرشتہ۔ الزَبِیر: ہوشیار آدمی۔

۲۔ زَبَرَ۔ زَبْرًا علیہ: پر صبر کرنا۔

۳۔ زَبَرَ۔ زَبْرًا و زَبَّرَ و اِزدَبَرَ الکتابَ: کتاب لکھنا۔ الزَبْر (مص): تحریر، کلام۔ الزِبْر جمع زُبُور: کتاب۔ الزَبُور جمع زُبُر: کتاب۔ عموماً حضرت داؤدؑ پر نازل شدہ کتاب، مزامیر۔ الزَبِیر: لکھی ہوئی چیز۔ التزبِرۃ: زَبَّرَ کا مصدر، تحریر، کتابت۔ المِزبَر: قلم۔

۴۔ زَبُرَ۔ زَبارۃً: بڑے جسم والا ہونا، ازبَرَ الرجلُ: ایضاً، بہادر ہونا۔ ـ الکبشَ: مینڈھے کو موٹا کرنا۔ الزَبْر: سخت طاقت ور۔ الزُبْرۃ جمع زُبَر و زُبُر: لوہے کا بڑا ٹکڑا۔ ارن، کاندھا اور پیٹھ۔ الزِبِرّ: سخت طاقت ور مضبوط شخص۔ الزبیر: ـ الأزبَر م زَبْراء جمع زُبْر والمُزبِر: چوڑے کندھوں والا۔

۵۔ اِزبَأَرَّ اِزبِئراراً النباتُ او الوبَرُ: نبات یا اونٹ کے بالوں کا اُگنا۔ و۔ الشَعرُ: بال کھڑے ہونا۔ و۔ الکلبُ: کتے کا اپنے بال کھڑے کرنا۔ ـ الرجلُ: شر و فساد کے لئے تیار ہونا۔ و۔ الزَبَر و الزابِر: کہتے ہیں۔ اخذہ بزَبِرہ او بزابِرہ: اپنی قوت مجتمع کرنا۔ الزُبْرۃ جمع زُبَر و زُبُر: شیر کی ایال۔ الأزبَر م زَبْراء جمع زُبْر: ایذا رساں، شیر۔ مَزبَرانی: گھنی ایال والا۔

۶۔ الزَبُور جمع زُبُر: فرقہ گروہ۔ الزَبِیر: ظریف اور ہوشیار آدمی، کیچڑ۔ ارض مَزبَرۃٌ: بہت بھڑوں والی زمین۔

۷۔ زَبرَجَ الشیءَ: چیز کو خوبصورت بنانا اور اسے آراستہ و پیراستہ کرنا۔ الزِبرِج زَبارِج: گلکاری و میناکاری کی زینت، ہر خوبصورت شے۔ سونا، سرخ پتلا بادل۔

۸۔ الزَبَرجَد جمع زَبارِج: زبرجد (ایک قیمتی پتھر جو زمرد سے مشابہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مشہور سبز رنگ کا ہے۔ (فارسی لفظ ہے)۔

۹۔ زَبرَقَ الثوبَ: کپڑے کو لال یا پیلا رنگ دینا، کپڑے کو سرخ یا زرد رنگ میں رنگنا۔

○ زَبَرَ ــُ زبراہ: کو جھاڑ جھپاڑ کرنا۔ زُبِر: مرد کا آلہ تناسل۔ زُبرۃ جمع زُبَر: لوہے کا ٹکڑا۔ زَبُور: حمد و ثناء کی کتاب۔ زَبُور۔

زبط: زَبَطَ ــِ زَبْطاً و زَبِیطاً البطُّ: بطخ کا چلانا۔ الزَباطۃ و الزُباطّۃ (ح) بطخ

○ زَبَط: کیچڑ، دلدل۔ ذُبَاطَة: کھجوروں کا خوشہ، گچھا۔
زبع: ا۔ تَـزَبَّعَ: بد خلق ہونا، غصے والا ہونا، جھگڑالو ہونا۔
الزِّبِّيع: غصہ ور جھگڑالو۔ الزَّوْبَعَة جمع زَوَابِع: بگولہ
اسے اُمّ زَوْبَعَة و ابوزَوْبَعَة بھی کہتے ہیں۔ الزَّوابِع:
مصیبتیں۔
۲۔ الزَّوْبَع: حقیر، پست قد۔
۳۔ الزِّبَعْرَى: بد خلق، موٹا، چہرے اور ابرو پر زیادہ بالوں
والا، مگرمچھ کی مادہ۔
۴۔ الزِّنْبَاعَة: جوتے کی نوک۔
زبق: ا۔ زَبَقَ ۔ زَبْقاً شَعرَهُ: بال اکھیڑنا۔ و۔ تِ المرأةُ
بولدها: عورت کا اپنے بچے کو پھینک دینا۔ الازبق: وہ
احمق جو اپنی بے وقوفی سے اپنی داڑھی کے بال نوچے۔
الزَّبِيْقَةُ و المَزْبُوقَةُ من اللحى: نوچی ہوئی داڑھی۔
۲۔ زَبَقَ ۔ زَبْقاً ہ فی السجن: کو قید میں ڈالنا اور تنگی
میں ڈالنا۔ و۔ ہُ فـی الشـی ء: کو کسی چیز میں داخل
کرنا۔ -- الشـی ءَ بالشی ء: کسی چیز کو دوسری شے
میں ملانا، خلط ملط کرنا۔ اِنْزَبَقَ فی البیت: گھر میں
داخل ہونا۔ و۔ فی الحبالة: جال میں پھنسنا، چھپنا۔
الزَّابُوقة من البیت: گھر کا گوشہ، کونا۔
۳۔ زَبَقَ ۔ زَبْقاً القُفْلَ: تالا کھولنا۔
زبل: زَبَلَ ۔ زَبْلاً و زَبَّلَ الارضَ: زمین میں کھاد ڈالنا،
زمین کھاد ڈال کر اسے زیادہ پیداوار کے لائق بنانا۔
الزِّبْل: (ز) کھاد، گوبر، لید۔ الزِّبْلَة و الزَّبِيل و الزِّبِّيل
کھاد۔ المَزْبَلَة و المَزْبُلَة جمع مَزَابِل: کوڑا کرکٹ
جمع ہونے کی جگہ، کوڑی، گھورا، کوڑا کرکٹ ڈالنے کی
بالٹی۔
۲۔ زَبـل زَبْلاً و اِزْدَبَلَ الشی ءَ: چیز اٹھانا لے جانا لانا۔
الزُّبْلَة: لقمہ۔ الزُّبَال و الزِّبَال: وہ چیز جسے چیونٹی
منہ میں اٹھا کر لے جائے کہتے ہیں۔ مـا اصاب منه
زبالاً: اس نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ الزُّبَالَة:
تھوڑا سا پانی کہتے ہیں۔ مَـافِی الْبِئرِ زُبَالَة: کنویں
میں تو تھوڑا پانی بھی نہیں۔ الزَّبِيل جمع زُبُل زُبْلان و
لزِّبِّيل جمع زَبَابِيل و الزِّنْبِيل و الزَّنْبِيل جمع زَنَابِيل:
ٹوکرا، برتن، توشہ دان۔
۳۔ الزَّابِل و الزَّابَل: پست قد۔
○ زَبَّـال: گلیوں میں جھاڑو دینے والا، کوڑا کرکٹ اکٹھا
کرنے والا۔ زُبَالَة: کوڑا کرکٹ، فضلہ، گندگی، میلا،
غلاظت۔
زبن: ا۔ زَبَنَ ۔ زَبْناً ہُ: (کو) ہٹانا، ایک طرف کرنا۔
دھکیلنا، ٹکرانا۔ و۔ تِ الناقةُ: اونٹنی کا دودھ دوہنے کے
وقت، گھٹنے سے مارنا کہتے ہیں زَبَنَ عَنَّا مَعْرُوفَه

اس نے اپنی بھلائی ہم سے روک لی۔ زَابَـنَ ہ
مُزَابنةً: ایک دوسرے کو ہٹانا، دھکیلنا۔ اِزْبَنَ بِيَتَهُ
عَنِ الطريق: راستہ سے ہٹ کر مکان بنانا۔ تَزَبَّنَ
ہُ: (پر) غالب آنا۔ تَزَابَنَ القومُ: لوگوں کا ایک
دوسرے کو ہٹانا دھکیلنا۔ اِنْزَبَنَ القومُ: لوگوں کا ایک
طرف ہٹ جانا۔ بیتٌ زَبِنٌ: گھروں سے ہٹ کر بنا
ہوا گھر۔ مـقام زَبِنٌ: تنگ جگہ جہاں انسان کھڑا نہ
ہو سکے۔ الزَّبَن: گوشہ کنارہ۔ الزِّبن و الزُّبْن: بہت
تنگ۔ زُبْنَتا الناقة: اونٹنی کی دونوں ٹانگیں۔ الزَّبُونُ
من النوق: دوہتے وقت زانوں پھٹکانے والی اونٹنی۔
حربٌ زبونٌ: شدید جنگ۔ الزَّبُّونَة و الزَّبُونة:
گردن کہتے ہیں۔ فیـه زَبُّونة: یعنی وہ متکبر ہے۔
زُبَانَى العقرب جمع زبانیات بچھو کا ڈنک۔ زُبَانَيا
العقرب: بچھو کے سینگ۔ الزِّبْنِيَة جمع زَبَانِيَة:
سخت، سپاہی، افسر، سرکش جن و انسان۔ الـزَّبَـانِيَة:
سپاہی، دوزخیوں کو جہنم کی طرف دھکیلنے والے فرشتے۔
۲۔ زَبَنَ ۔ زَبْنـاً الثمرَ: پھل کو درخت پر ہی فروخت کر
دینا۔ الـمُزَابَنَة: نامعلوم پیمانہ، تعداد اور وزن والی
چیز کی معلوم مقدار کے ساتھ فروخت۔ الـزَّبُون جمع
زُبُن و زبونات: گاہک، خریدار۔
۴۔ الـزَّبُون: کند ذہن، بیوقوف (اس معنی میں یہ لفظ فصیح
نہیں اس کی اصل فارسی زبان ہے)۔
○ زَبُون: ہوٹل کا مہمان۔ زَبُون دائم: مستقل گاہک،
سرپرست۔ زُبُّون: زیر جامہ۔
زبی: ا۔ زَبَى ۔ زَبْياً و اِزْدَبَى ہُ: (کو) اٹھالے جانا۔
ہانکنا۔ زَبَّى فلاناً: کو ہانکنا۔ اَزْبَى اِزْبَاءً ہُ: (کو)
اٹھالے جانا۔ الأُزْبِيّ جمع اَزَابِيّ: ایک قسم کی چال،
سرعت، نشاط۔
۲۔ زَبَى ۔ زَبْیاً بِشرٍّ: پر برائی کا الزام لگانا۔ زَبَّ
اللحمَ: شکار کے گڑھے میں گوشت بکھیرنا۔
الزُّبْيَة: شکار کے لئے گڑھا کھودنا۔ تَزَبَّى الزُّبْيَةَ
ایضـاً۔ فی الزُّبْيَة: گڑھے میں شکار کے لئے چھپ
جانا۔ الزُّبْيَة جمع زُبًى: روٹی پکانے یا گوشت بھوننے کا
گڑھا، درندوں کے شکار کے لئے گڑھا، پشتہ جس پر
پانی نہ چڑھے کہتے ہیں بلغ السیلُ الزُّبَى: معاملہ
سنگین صورا اختیار کر گیا۔ الأُزْبِيّ جمع اَزَابِيّ: بڑا
معاملہ، برائی۔
۳۔ تَزَابَى تَزَابياً: تکبر کرنا، مغرور ہونا۔
زجّ: ا۔ زَجَّ ۔ زَجّـاً ہُ: (کو) نیزے کے پچھلے سرے
کے لوہے سے مارنا۔ و۔ بـالشی ء: کوئی چیز پھینکنا۔
و۔ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ ازجّ زَجّاً و ازدَجّ

حـاجبَهُ: کے ابرو کا دراز اور باریک ہونا۔ اَزَجُّ م
زَجَّاءُ جمع زُجّ: جس کے ابرو دراز اور باریک ہوں۔
حاجبٌ اَزَجُّ: دراز اور باریک ابرو۔ زَجَّجَ الحاجبَ:
ابرو کو باریک اور دراز بنانا۔ و۔ الموضعَ: جگہ کو ٹھیک
اور ہموار کرنا۔ کہتے ہیں۔ نقر خشبةً ثمّ زَجَّجَ
موضـع النقر: اس نے لکڑی کو کھودا پھر کھدی ہوئی
جگہ ٹھیک اور ہموار کیا۔ اس کی اصل تـزجیج
الحـواجب ہے۔ یعنی ابروؤں سے زائد بال دور
کرنا۔ اَزَجَّ: نیزے کے پچھلے سرے کو نکالنا ــــ
الرمحَ: نیزے کے پچھلے سرے پر لوہا لگانا۔ الزُّجّ جمع
زِجَاج و اَزِجَّة و زِجَجَة: نیزے کے پچھلے سرے کا لوہا
(مثل ہے۔ جعل الزُّجّ قدّام السنان یعنی اس
نے ادنیٰ کو اعلیٰ پر فضیلت دی) تیر کا پھل۔ کہنی کا سرا،
کبھی زِجاج کو نیزوں کے معنی میں بھی لیتے ہیں، جزء
کے بدلے کل کے طور پر۔ الزُّجَج: پھل لگے ہوئے
چھوٹے نیزے۔ رُمحٌ مُزَجّ: نیزہ جس کے پچھلے
سرے پر لوہا لگا ہو۔ المِزَجّ: چھوٹا نیزہ۔ المِزَجَّة:
موچنا، پنسل (ابرو بنانے والی)
۲۔ زَجَّ ۔ زَجّاً: دوڑنا۔ الازَجّ: لمبا ڈھینگ۔
۳۔ الـزُّجُج: سدھائے ہوئے گدھے۔ الـزُّجَاج
و الـزِّجَاج و الزَّجَاج: شیشہ۔ زُجاجة و زَجاجة
و زِجـاجة: شیشے کا برتن، شیشے کا ٹکڑا، شیشے کی بوتل،
گلاس، تھرموس۔ الزِّجَاجَة: شیشہ سازی کا پیشہ۔
الزَّجّاج: شیشہ گر۔ الزُّجَاجي: شیشہ بیچنے والا۔
○ زَجَّ ـُ زَجّاً ہ: کوئی چیز پھینکنا۔ ہ و ہ / ب: کو دھکیلنا،
ٹھونسنا، ٹھونکنا۔ ــــ ہ و ہ / ب فی: کو میں ٹھونسنا۔
زُجَّ بـه فـی السجن: اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔
زَجَّجَ الحاجبین: بھویں بنانا۔ ابرو بنانا ــ ہ: میں
شیشے لگانا، پر مینا کاری کرنا۔ مُـزَجَّج: مینا کاری کیا
ہوا۔ شیشہ کا روغن کیا ہوا۔ مُزَجَّجَات و مصنوعات
مُزَجَّجَة: مینا کاری کئے ہوئے برتن۔
زجر: ا۔ زَجَرَ ـُ زَجْراً ہُ عن کذا: کو (سے) منع کرنا،
روکنا، باز کرنا، (کو) چلا کر نکال باہر کرنا۔ و۔ تِ
الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو اٹھا کر لانا۔ ــــ
الکلبَ و بالکلب: کتے کو ڈانٹنا، دھتکارنا۔ الطیرَ:
پرندہ کو فال لینے کے لئے اڑانا، اگر پرندہ سیدھی طرف
اڑتا تو اس کو نیک فال جانتے اور اگر بائیں طرف اڑتا
تو اسے بدشگونی سمجھتے۔ الرجلَ: آدمی کا کہانت کرنا،
کہتے ہیں۔ زجرتُ ان یکون کذا و کذا: میں
نے ایسا ہونے کے خبردار کیا۔ تَزَاجَرَ القومُ عن
الشرّ: ایک دوسرے کو برائی سے روکنا۔ اِنْزَجَرَ: منع

کرنے پر رک جانا اور باز رہنا۔ اِزْدَجَر: منع کرنے پر رک جانا اور باز رہنا۔ ہٗ (کو) منع کرنا، روکنا (کو) چلا کر باہر نکال دینا۔ زاجِرُ الانسان: انسان کا ضمیر۔ ابو زاجر: کوے کی کنیت۔ الزَّجّارُ: بہت ڈانٹنے والا۔ ناقةٌ زَجُورٌ: بغیر ڈانٹے دودھ نہ دینے والی اونٹنی۔ المزجر: ڈانٹنے کی جگہ۔ والمزجرۃ: ڈانٹنے والی بات یا چیز۔ کہتے ہیں۔ ذکرُ اللّٰہ مَزجرۃٌ للشیطان: یعنی اللہ کا ذکر شیطان کو بھگانے والا ہے۔

۲۔ الزجرو الزجر جمع زُجُور: بڑے جسم کی مچھلی۔

○ زَجْری: اصلاحی، مَعْهَد زجری: اصلاحی قید خانہ، اصلاحی مدرسہ۔ قَعَدَ مِنْهُ مَزْجَرَ الکَلْب: کسی سے مناسب فاصلہ پر بیٹھنا۔ زاجر: رکاوٹ، زاجِرۃ جمع زَوَاجِر: پابندی، بندش، قید۔

زجل: ۱۔ زَجَلَ - زَجْلاً ہٗ و بہ: (کو) تیر مارنا، ہٹانا۔ ہٗ بالرمح: (کو) نیزہ مارنا۔ ــ الحَمَامَ: کبوتر کو دور بھیجنا۔ حمامُ الزاجل یا الزجال: پیغام رسان کبوتر۔ الزّاجل و الزاجل جمع زَوَاجِل: فوج کا سالار، نیزے کے نچلے حصہ کے لوہے کا حلقہ، رسی کے سرے پر باندھنے کا لکڑی کا گول ٹکڑا۔ الزَّجّالۃ: چھوٹے نیزے سے مارنے والے۔ مسافۃٌ زَجُولٌ: لمبی مسافت۔ المَزْجَل: کبوتروں کو روانہ کرنے کی جگہ۔ المِزْجَل و المِزْجال: چھوٹا نیزہ، برچھی۔

۲۔ زَجِلَ - زَجَلاً: خوش ہونا، گانا، شوروغوغا کرنا کہتے ہیں۔ ھو زَجِلٌ و زاجلٌ: ایسا شخص۔ ــ القومُ: لوگوں کا کھیل کود کرنا۔ الزجل: شعر کی ایک قسم۔ سحابٌ ذو زَجَل: گرجنے والا بادل۔ زَجَلُ الجنِّ: مدھم آوازیں جو بیابانوں میں سنی جاتی تھیں، جن سے ریت کے ٹیلے گرنے لگتے تو عربوں کو گمان ہوتا کہ یہ جنوں کی آوازیں ہیں۔ الزُّجلۃ جمع زُجَل: لوگوں کی جماعت۔ الزَّجلۃ جمع زَجَلات: لوگوں کی آواز اور شوروغل۔

۳۔ الزُّجْلۃ جمع زُجَل: ہر چیز کا ٹکڑا، دونوں آنکھوں کے درمیان کی کھال، حالت۔

زجم: زَجَمَ - زَجْماً: کانا پھوسی کرنا، خفیہ بات سنانا، کہتے ہیں۔ سَکَتَ فما زجم بحرفٍ: یعنی وہ چپ رہا اور ایک حرف نہیں بولا۔ الزُّجمۃ الزَجمۃ: آہستہ بات، خفیہ بات کہتے ہیں۔ لم اسمع لہٗ زَجْمۃً: میں نے اسکی آہستہ آواز نہیں سنی۔ اور ھو لا یخالفہ برجمۃٍ: یعنی وہ اس کی کسی بات سے مخالفت نہیں کرتا۔ قوسٌ زَجُوم: کمزور آواز نکالنے والی کمان۔ الزُّجَم: (ج) پرندہ۔

زجا: ۱۔ زَجا - زُجُواً و زَجّی تَزْجِیَۃً و اَزْجی اِزْجاءً و اِزْدَجی ہٗ: (کو) ہانکنا، نرمی سے ہٹانا کہتے ہیں: کیف تزجی ایامك: تم اپنا زمانہ کیسے گزارتے ہو۔ ازجی الامرَ: معاملہ کو ملتوی کرنا۔ تزجّی تَزَجِّیاً بالشیء: پر اکتفا کرنا، قناعت کرنا۔ الأَزْجی: اسم تفضیل کہتے ہیں۔ فلان ازجی من فلان بھذا الامر: یعنی وہ فلاں سے یہ معاملہ زیادہ نافذ کرنے والا ہے۔ المُزجی م مُزجاۃ: تھوڑی یا ردی چیز۔ المُزَجّی: پیش پا امور میں سے کمزور، ملتوی شدہ، امر جسے آگے لانے اور انگیخت کرنے کی ضرورت ہو۔

۲۔ زَجا - زُجُوًّا و زُجُوًّا و زَجاءً الخراجُ: خراج کا بسہولت جمع ہونا۔ الامرُ: بات کا کامیاب ہونا آسان ہونا۔ زَجّی تَزْجِیَۃً فلانٌ حاجتی: (کسی) کا میری ضرورت کا حصول آسان بنانا۔ اَزْجی الدرھمَ: درھم کو رواج دینا۔

۳۔ زجا - زُجُوًّا و زُجُوًّا و زَجاءً فلانٌ: کی ہنسی بند ہونا۔

○ زَجا - زَجْواً ہ و ھ: کو آگے بڑھانا۔ ہ و ھ فی: کو میں ٹھونسنا۔ زَجّی ہ و ھ: کو دھکیلنا، ہانکنا، آگے بڑھانا۔ ـــ ہ و ھ الی: کو میں ٹھونسنا، گھسیڑنا، کو زبردستی میں لانا۔ ـــ ھ: وقت گزرنے دینا، وقت گزارنا۔ ازجاہ و ھ: کو دھکیلنا، آگے بڑھانا۔ ہ و ھ الی: کو میں ٹھونسنا، گھسیڑنا، کو زبردستی میں لانا۔ ہ: وقت گزارنا۔ ـــ ھ الی: مبارکباد، شکریہ وغیرہ کسی کو پیش کرنا، کی تعریف کرنا۔ ازجی الی الذھن ان: خیال یا مفروضہ تجویز کرنا کہ ــ مُزْجی: تھوڑا، بہت کم، بمشکل کچھ، معمولی سا، غیر اہم۔

زح: ۱۔ زَحّی - زَحّاً ہٗ: (کو) جلدی سے ہٹانا یا کھینچنا۔ عن مکانہ: (کو) اس کی جگہ سے علیحدہ کرنا، ایک طرف کرنا۔

۲۔ زَحْزَحَ ہٗ عن مکانہٖ فتَزَحْزَحَ: (کو) اسکی جگہ سے دور کرنا یا ہٹانا اور اس کا اس جگہ سے دور ہو جانا اور ہٹ جانا۔ الزحزح: دوری کہتے ہیں۔ ھو بزحزحٍ منہ: یعنی وہ اس سے دور ہے۔ الزحزاح: دور، بعید۔

زحب: زَحَبَ - زَحْباً الیہ: سے قریب ہونا۔

زحر: ۱۔ زَحَرَ - زَحِیراً و زُحاراً و زَحارۃً: پیچش میں مبتلا ہونا، عمل یا سختی سے آہ بھرنا۔ ت بہٖ اُمُّہٗ: ماں کا اسے جننا۔ زُحِر: کو پیچش میں مبتلا ہونا۔ زَحَّر: کو پیچش کی شکایت ہونا۔ تزحّر: (کا) پیچش میں مبتلا ہونا۔ ت عنہ امُّہٗ: ماں کا اسے جننا۔ الزُّحَر والزحّار و الزحران: بخیل، جیسے سوال کرنے پر کراہتا ہو۔ الزُّحار و الزحیر: (طب) پیچش۔

۲۔ زَحَرَ - زَحِیراً و زُحاراً و زُحارۃً ہٗ بالرمح: (کو) نیزہ سے زخمی کرنا۔ زاحَرَہٗ: سے دشمنی کرنا۔

○ زحیر: کراہ، زُحار: کراہ، پیچش۔

زحف: زَحَفَ - زَحْفاً و زَحَفاناً و زُحُوفاً: (کا) اپنے سرین یا گھٹنوں کے بل آہستہ آہستہ گھسٹنا۔ ــ الیہ: کی طرف چلنا کہا جاتا ہے۔ زحف العسکر الی العدو: اپنی کثرت کی وجہ سے لشکر دشمن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھا۔ و۔ الشیء: چیز کو ہلکے سے کھینچنا۔ و۔ البعیرُ: اونٹ کا تھک جانا۔ ایسا اونٹ زاحف و زاحفہ ہے: تا مبالغہ کے لئے ہے۔ ایسی اونٹنی زاحفۃ جمع زواحف و زحوف جمع زُحُف ہے۔ و۔ السھمُ: تیر کا نشانہ کے ورے گرنا پھر نشانہ کی طرف بڑھنا، ایسا تیر زاحف ہے جس کی جمع زواحف آتی ہے۔ زاحفناھم: ہمارا ایک دوسرے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا۔ ازحفَ: انتہائی مقصد تک پہنچنا۔ ہٗ طُولُ السَّفَر: سفر کی طوالت کا کسی کو تھکا دینا۔ و۔ البعیرُ: اونٹ کا تھک جانا۔ و۔ الرجلُ: تھکے ہوئے اونٹ یا گھوڑے والا ہونا۔ و۔ بنو فلان: بنی فلان کا دشمن کی طرف بڑھنے والا لشکر بن جانا۔ تَزَحَّفَ و اِزْدَحَفَ الیہ: کی طرف چلنا۔ تزاحف القوم فی الحرب: لوگوں کا لڑائی میں ایک دوسرے کی طرف بڑھنا اور قریب ہونا۔ الزَّحْفُ: (مص) جمع زُحُوف: دشمن کی طرف بڑھنے والا لشکر جرار۔ الزُّحْفۃ: نزدیکی مقامات تک سفر کرنے والا، جو ملک میں لمبے سفر نہ کرے۔ الزِّحاف: علم عروض میں۔ سبب ثقیل یا خفیف کا تغیر الزّحّاف مؤنث زحّافۃ: بہت کوچ کرنے والا۔ الجراد الزحاف: زمین پر چلنے والی ٹڈی، اسکی ضد طیار ہے۔ الزّحّافات (ح) زمین پر رینگنے والے جانور جیسے کچھوا۔ المزحف: ڈھلوان جگہ جو ہوائی جہاز کے بموں کے اس پر پھسلنے کے لئے تیار کی جاتی ہے۔ المَزْحَف جمع مَزَاحِف: پھسلنے کی جگہ۔ مزاحفُ الحیّات: سانپوں کے رینگنے کی جگہیں۔ و ــ السحاب: بادل کا قطرہ گرنے کی جگہ۔ بعیر مِزْحاف جمع مَزَاحِف و مَزَاحِیف: تھکنے کا عادی اونٹ۔

○ زَحْف: کوچ، پیش قدمی، (فوج کی) جمع زُحُوف: فوج۔ زَحّاف: رینگنے والا، گھسٹنے والا، گھسیٹنا، پیٹ کے بل چلنے والا۔ زَحّافۃ جمع زَحّافات: رینگنے والا جانور، زمین ہموار کرنے کا آلہ، ہموار کرنے والا، لمبا برفانی

جوتا۔ زاحِف: رینگنے والا، گھسٹنے والا، پیٹ کے بل چلنے والا، زواحف: رینگنے والے جانور۔

زحلك: ا۔ زَحَلَكَ - زَحْكاً بالمكان: کسی جگہ میں ٹھہرنا، قیام کرنا۔ و۔ منهُ: (کے) قریب ہونا یا اس سے دور ہونا (ضد) تَزَاحَلَكَ القومُ: لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب ہونا یا ایک دوسرے سے دور ہونا (ضد)۔

۲۔ زَحَلَكَ - زَحْكاً عنهُ: سے دور ہونا۔ زَاحَلَكَهُ عن نفسه: کو اپنے سے دور کرنا۔ تَزَاحَلَكَ القوم: لوگوں کا ایک دوسرے سے دور ہونا، نزدیک ہونا۔ (ضد)

۳۔ زَحَلَكَ - زَحْكاً البعير: اونٹ کا تھک جانا۔ اَزْحَلَكَ الرجلُ: تھکی ہوئی سواری والا ہونا۔

زحل: ا۔ زَحَلَ - زَحُولاً عن مكانه: (کا) اپنی جگہ سے دور ہونا، ہٹ جانا، کنارہ کش ہونا، ایسا شخص زَاحِل اور زَحِل کہلاتا ہے۔ زَحَّلَهُ: (کو) دور کرنا۔ اَزْحَلَهُ: کو دور کرنا۔ و۔ اَزْحَلَهُ اِلیہ: پر مجبور کرنا۔ تَزَحَّل عن مكانِه: اپنی جگہ سے ہٹنا اور دور ہو جانا۔ زُحَـــل (فلك): ایک ستارہ کا نام جو اپنی بلندی اور دوری میں ضرب المثل ہے۔ رجلٌ زُحَلٌ: وہ شخص جو اپنے کام سے کنارہ کش ہو جائے، اچھا ہو یا برا۔ الـزُّحَلَة: کاموں سے کنارہ کش آدمی۔ نزدیکی جگہوں تک سفر کرنے والا (ح) وہ جانور جو اپنے بل میں پہلے دم داخل کرے پھر سر۔ مســافةٌ زُحولٌ: دور کی مسافت۔ الـزُّحْلُول: تنگ پھسلنے والی جگہ۔ الزِحْلِيل: الگ بنے والا تنگ پھسلنے والی جگہ۔ المَزْحَل: زَحَلَ کا مصدر میمی، تنہائی کی جگہ کہتے ہیں۔ اذالـم يكن عن شَفْرة السيف مزحَلٌ: جب تلوار کی دھار سے بچنے کا موقع نہ ہو۔

۲۔ زَحَلَ - زَحْلاً: (کا) تھک جانا۔

۳۔ الزُحْلُول: ہلکے پھلکے جسم والا۔ الزِحْلِيل: تیز۔

۴۔ زَحْـلَفَ الشـیء: کو چیز کو لڑھکانا، کنارہ پر کرنا۔ و۔ فـی الكـلام: بولنے میں تیزی کرنا۔ تَـزَحْلَفَ: لڑھکنا، ایک طرف ہونا۔ و۔ تِ الشـمسُ: سورج کا غروب ہونے کے لئے جھکنا یا دوپہر کو سر پر سے ڈھلنا۔ الـزُحْلُوفة جمع زَحَـالِف و زَحَالِيف: پھسلنی ڈھلوان جگہ۔ الزَحَالِف: (ح) چیونٹی سے مشابہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے۔

۵۔ زَحْلَفَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

۶۔ زَحْـلَقَ و زَحْـلَكَ و تَزَحْلَقَ و تَزَحْلَكَ: دیکھو زحلف و تزحلف: کہتے ہیں۔ تزحلق على الجـلـيـد: وہ برف پر پھسلا۔ الـزُّحْـلُـوقَة و الزُحْلُوكة: ہنڈولہ۔ انگریزی میں See saw۔

○ زَحْلَقَهُ: کو پھسلانا، لڑھکانا۔ تَزَحْلَقَ: پھسلنا، رپٹنا۔ ميدان الزحلقة: سکیٹنگ کا فرش۔

زحم: ا۔ زَحَمَ - زَحْماً و زِحَاماً هُ: کو تنگ کرنا یا اس سے سختی کا برتاؤ کرنا۔ اسے تنگ جگہ میں دھکیلنا۔ زاحمه: کو تنگ کرنا۔ و ـــ الخمسينَ: (کا) پچاس کے قریب ہونا، پچاس کے پیٹے میں ہونا۔ تَزَاحَمَ و اِزْدَحَمَ القومُ: ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ایک دوسرے کو دھکیلنا۔ و۔ تِ الامـواجُ: موجوں کا ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ الزَحْم: (مص): لوگوں کی بھیڑ۔ الـزَحْمَة: بھیڑ۔ الـزحـام: مصدر۔ يوم الـزِحـام: قیامت کا دن۔ الـمِـزْحَم: بہت بھیڑ کرنے والا۔

۲۔ زَحَمَ القِرْبَةَ: مشک بھرنا، مشکیزہ بھرنا۔

○ زَحَمَ - زَحْماً ه: کو دھکیلنا، کہنیاں مار کر آگے بڑھانا، دھکا دینا، پر ٹوٹ پڑنا، ہجوم کرنا، زَاحَمَه: ایضاً ـــ ہ: کے مقابلہ میں حصہ لینا، کا مقابلہ کرنا۔ ـــ تزاحم: باہم ہجوم کرنا۔ ـــ فی: میں کھچا کھچ بھرے ہونا۔ ـــ: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ اِزْدَحَـمَ ب: سے بھرے ہونا۔ ـــ: لوگوں کا ہجوم کرنا۔ زَحْمة: ہجوم، بھنچا ہوا ہجوم۔ زِحام: ایضاً۔ مُزَاحَمة جمع مُزَاحمات: مقابلہ، رقابت۔ لايقبل المزاحمة: بلا مقابلہ، بے نظیر۔ تـزَاحُم: (باہمی) مقابلہ۔ ازدحام: بھیڑ، ہجوم۔ مُزَاحِم: مقابلہ کرنے والا، رقیب۔ مُزْدَحِم: بہت بھیڑ والا ـــ ب: سے لبالب یا کھچا کھچ بھرا ہوا۔ مُزْدَحَم: بھیڑ، ہجوم، بھنچا ہوا ہجوم۔

زحن: ا۔ زَحَنَ - زَحْناً: دیر لگانا۔ تزَحَّنَ: دیر لگانا۔ و۔ على الشئ وعنه: (کو) ناپسندیدگی سے کرنا۔ الزُحْنَة: قافلہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ۔ سخت گرمی۔ کہتے ہیں۔ لَهُمْ زُحْنَةٌ: ان کے لئے دیر کا کام ہے اور۔ لـه زُحْنَةٌ بَعْدُ: جب کوئی سفر پر جا رہا ہو تو کسی کام کو موخر کر دے۔

۲۔ تَـزَحَّنَ: سکڑ جانا۔ رجلٌ زُحَنٌ م زُحَنَة: پست قد توند والا۔

۳۔ زَحَنَ - زَحْناً هُ عن المكان: کو جگہ سے دور کرنا۔ تزَحَّنَ عن مكانه: سے حرکت کرنا۔

۴۔ الزُحْنَة: وادی کا موڑ۔

زَخّ: ا۔ زَخَّ - زَخّاً بالابِل: اونٹوں کو تیز چلانا۔ و۔ هُ: کو ہٹانا دور کرنا، کو گڑھے میں گرانا۔ و۔ ـــ زَخًّا و زَخِيخًا الجمرُ: چنگاری کا تیز چمکنا۔ زَخَّ المطرُ: بارش کا تیز برسنا۔ الـــزُّخّة: بکریوں کے لیلے۔ الزَخَّة والـمَـزَخَّة والـمِزَخَّة: بیوی، بارش کا سخت ریلا۔

۲۔ زَخَّ - زَخّاً: غضبناک ہونا۔ الزَخّ: (مص) کینہ، غصہ۔ الزَخَة: کینہ، غصہ۔

○ زَخّة جمع زَخّات: موسلا دھار بارش، سخت بوچھاڑ۔

زخر: زَخَرَ - زَخْراً و زُخُوراً و تَزْخاراً البحرُ: دریا کا طغیانی میں آنا، بھر جانا۔ و۔ الـوادى: وادی کا پانی سے بھرا ہونا۔ و۔ النباتُ: نباتات کا لمبا اور اونچا ہونا۔ و۔ القومُ: جنگ یا روانگی جنگ کے لئے قوم کا جوش میں آنا۔ و۔ تِ الحربُ او القِدْرُ: لڑائی یا ہانڈی کا جوش مارنا۔ و۔ هُ: (کو) بھرنا، موٹا کرنا، آراستہ کرنا۔ تَزَخَّر البحرُ او الوادى: دریا یا وادی کا طغیانی میں آنا۔ الزاخِر (فا): کریم، فیاض، بھرا ہوا، چھلکنے والا۔ مـن الشـرف: خاندانی شرافت کا حامل۔ رواخر الوادی: وادی کی گھاس۔ الزَخّار: زخر کا اسم مبالغہ: شدید طغیانی والا۔ الـزُخْـرِىّ: طویل۔ نباتٌ زَخُورٌ و زَخْوَرِى: لمبا گنجان پودا۔ نباتٌ زَخَارِى: لمبا گنجان پودا۔ زُخَارِىُّ النبات: نباتات کی گھنا ہونے اور شگوفے دار ہونے پر تر و تازگی۔ کہتے ہیں۔ قد اخذت الارض زُخارِيَّها: زمین کی نباتات اونچی ہو گئی۔

۲۔ زَخَر - زَخْراً و زُخوراً و تَزْخاراً بماعنده: پر فخر کرنا۔ زَاخَـرَهُ: فخر میں دوسرے پر غالب آنا۔ کہتے ہیں۔ زاخره فزخره: اس نے اس سے فخر میں مقابلہ کیا تو وہ اس پر فخر کرنے میں غالب آ گیا۔ تَـزَخْوَرَ بماعِنده: پر فخر کرنا۔ كلامٌ زَخْوَرِىّ: وہ کلام جس میں متکبرانہ تہدید سے بھری ہوئی گفتگو کی جائے۔

۳۔ زَخَرَ - زَخْـراً و زخوراً و تَـزْخَاراً هُ: (کو) خوش کرنا، خوشی پر برانگیختہ کرنا۔ الـزَاخِـر (فا): خوش۔ زَخْـرَفَ هُ: (کو) خوبصورت بنانا، آراستہ و پیراستہ کرنا۔ و۔ الـكـلام: کلام کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔ تَـزَخْـرَفَ الـرجـلُ: (کا) زیب و زینت کرنا، سجنا، اپنے آپ کو سجانا، بننا ٹھننا۔ الزُخْرُف جمع زخارف: سونا (دھات) چیز کی خوبصورتی۔ زُخْرُفُ الكلامِ: جھوٹ سے سجا ہوا کلام۔ و۔ الارضِ: زمین کی سبزیوں کے رنگ۔ الـزخـافِ: کشتیاں، پانی پر اڑنے والے پتنگے، جیسے مکھی۔ زخارفُ الماء: پانی کے راستے۔

○ زَخَرَ - زُخُوراً ب: سے لبالب ہونا، سے بھرا ہونا، کی ڈینگ مارنا، کی بڑ ہانکنا۔ تَـزَخَّر: بلند ہونا، نکلنا۔ ـــ ب: سے بھرپور ہونا، کی بہتات، کثرت یا افراط ہونا۔

زَاخِر و زَخّار: بھرا ہوا، لبالب بھرا ہوا، پانی سے بھرپور (سمندر)۔ بہت زیادہ، بہت کثیر، وافر، زندہ دلانہ (احساس)۔

زخف: ا۔ زَخَفَ - زَخْفاً و زخیفاً: تکبر کرنا۔ زَخَّفَ فی القول: بہت بولنا۔ تَزَخَّفَ: بنا ٹھنا۔ المُزَخَّف: متکبر، فخر کرنے والا۔

○ زَخَارِفُ لفظیة: صنائع بدائع، زخارف الدُّنیا: جھوٹی شان۔ مُزَخْرَف: سجایا ہوا، سج دھج والا، زیبائش کیا ہوا، خوبصورت یا خوشنما بنایا ہوا۔ مُزَخْرَف: خانہ آرا۔

زخم: ا۔ زَخَمَ - زَخْماً ہُ: (کو) سختی سے دھکیلنا۔ اِزْدَخَمَ الحِملَ: بوجھ اٹھانا۔ الزِخْم: طاقت اور سختی، قوت وشدت۔ الزَّخِیم: سخت ضرب لگانے والا مضبوط اور طاقت ور شخص۔

۲۔ زَخِمَ - زَخَماً و اَزْخَمَ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا ایسا گوشت۔ زَخِم کہلاتا ہے۔ الزَّخَمَة: گوشت کا خراب اور بدبودار ہونا۔ الزَّخْمَاء: بدبودار عورت۔ الزخیم من الروائح: تیز بدبو۔

زدب: الزِدْب جمع اَزْدَاب: حصہ (نصیب)

زدر: ا۔ زَدَرَ و اَزْدَرَ: صدر واصدر کے معنی میں یعنی لوٹنا اور لوٹانا۔ الاَزْدَران: دونوں شانے۔ کہتے ہیں۔ جاء یضرب اَزْدَرَیْہ: وہ خالی ہاتھ آیا۔ اِزْدَرَمَ: نگلنا۔

زدف: اَزْدَفَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔

زدا: زَدَا - زَدْواً الصبیُ الجوزو بالجوز: بچے کا اخروٹ کو گڑھے میں پھینک کر کھیلنا۔ اَزْدی اِزْداءً: احسان کرنا، بھلائی کرنا۔ المزداة او المزداء: بچوں کا وہ چھوٹا گڑھا جس میں وہ اخروٹ پھینک کر کھیلتے ہیں۔

زرّ: زَرَّ - زَرّاً القمیصَ: قمیض کے بٹن بند کرنا۔ و۔ الشیءَ: (کو) جمع کر کے باندھنا۔ و۔ عینَہٗ: آنکھ بھینچنا۔ تنگ کرنا۔ و۔ ہٗ: و۔ زَرّاً الرجلُ: گھنڈی لگانا۔ زَرَّرَ ثَوبَہٗ: کپڑے کو بٹن لگانا یا بٹن بنانا۔ اَزَرَّ القمیصَ: قمیض کو بٹن لگانا۔ تَزَرَّرَ القمیصُ: قمیص کا بٹن دار ہونا، کے بٹن بند ہونا۔ الزِرّ جمع اَزْرَار و زُرُور: بٹن، گھنڈی، خیمہ کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی۔ (ع ا) گردن کے پچھلے حصہ کا گڑھا۔ دل کے نیچے کی چھوٹی ہڈی، گڑھا، جس میں بازو یاران کی ہڈی گھومتی ہے، کونپل، کلی، شگوفہ۔ زِرُّ الشیءِ: ستون وہ شے جس سے اس کا قیام ہو۔ ھو زِرُّ مالٍ: وہ مال کی بہتری کے طریقے سے واقف ہے۔ جاءَ فلانٌ بزِرِّہٖ: وہ خود آیا۔ و اعطاہُ الشیَ بزِرِّہٖ: اس نے اس کو پوری چیز دی۔ الزُرّارَة: وہ چیز جو پھینکنے پر دیوار سے چمٹ جائے۔

۲۔ زَرَّ - زَرّاً المتاعَ: سامان جھاڑنا۔ و۔ الشَعْرَ: بال اکھیڑنا، نوچنا۔ و۔ الرجلَ: (کو) دھتکارنا۔

۳۔ زَرَّ - زَرّاً الرجلَ: (کو) دانت سے کاٹنا یا پکڑنا۔ زَرَّہٗ بالرمح: کو نیزہ سے مارنا۔ زَرّاً الرجلُ: کا اپنے مخالف پر سختی کرنا۔ زِرُّ السیفِ: تلوار کی دھار۔ الزَرَّة: کاٹنا، تلوار کا زخم۔ الزِرَّة: کاٹنے کا نشان۔ حمار مِزَرّ: کاٹنے والا گدھا۔ الزَارَّة (ح) اونٹ اور گدھے وغیرہ پر بیٹھنے والی مکھی۔

۴۔ زَرَّ - زَرّاً الرجلُ: آدمی کی عقل اور تجربات میں اضافہ ہونا۔ الزِرَّة: عقل۔

۵۔ زَرَّ - زَرِیراً اسنان الرمح: نیزے کے پھل کا چمکنا۔ و۔ تِ العینُ: آنکھ کا چمکنا۔ الزُرّار و الزِرِیر: سریع الفہم، تیز خاطر۔

۶۔ زَرْزَرَ الزَرْزُور: زرزور پرندے کا آواز نکالنا۔ و۔ الرجلُ: (کا) ہمیشہ زرزور پرندہ کھانا۔ بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ الزُرْزُور و الزُرزُر جمع زَرَازِیر و زَرَازِر: (ح) گرسل چڑیا سے بڑا ایک پرندہ، ایک قسم کا رنگ کالا ہوتا ہے، دوسری چتکبری ہوتی ہے یعنی سیاہ سفید نقطوں والی۔ الزُرْزُورِیّ: جس کا رنگ زرد وزر کا سا ہو۔

۷۔ تَزَرْزَرَ: گرسل کا حرکت کرنا۔ الزُرْزَار جمع زَرَازِرَة والزُرَازِر: سریع الخاطر، ذکی (فارسی لفظ)

○ زِرُ جمع ازرار و زُرُور: بٹن، پش بٹن، (دروازے وغیرہ کا) دستہ، لٹو، موٹھ، کونپل، کلی، شگوفہ، ٹوپی کا پھندنا یا بھالہ۔

زرا: اِزْرَأَمَّ اِزْرِئْماماً واِزْرَأمّ اِزْرِئْماماً کلامُہٗ اور دمُہٗ او بولُہٗ: کی گفتگو، یا خون یا پیشاب کا بند ہونا یا رکنا۔

زَرَبَ - زَرْباً المواشیَ: مویشیوں کو باڑہ میں بند کرنا۔ و۔ للغنم: بکریوں کے لئے باڑہ بنانا۔ اِنْزَرَبَ: باڑہ میں داخل ہونا۔ الزَرْبُ (مص): داخل ہونے کی جگہ شکاری کے گھات کی جگہ۔ و۔ الزِرْب جمع زُرُوب: مویشیوں کا باڑہ۔ الزاروب: عوام لمبی تنگ گلی کو کہتے ہیں، اس کے لئے فصیح لفظ الزقب ہے۔ الزَرِیبَة: جمع زِراب وزَرائِب: مویشیوں کا باڑہ شیر کی کچھار۔ شکاری کی گھات لگانے کی جگہ۔

۲۔ اِزْرَبَّ النباتُ: پودے کا زرد ہونا۔ سبزی مائل سرخ ہونا۔ الزِرْبی جمع زَرَابِی: مسند اور گدی تکیہ۔ و۔ من النبت: زرد یا سبزی مائل، سرخ پودا۔ الزِرْبِیَّة جمع زَرَابِیّ: مسند، تکیہ، جی حضوری لوگ۔ و۔ من النبت: زرد یا سبزی مائل پودا۔

۳۔ زَرِبَ - زَرْباً الماءُ: پانی کا بہنا۔ الزِرْب: پانی بہنے کی جگہ۔ المِزْراب جمع مَزارِیب: پرنالہ۔

○ زُرْبیہ و زِربیة جمع زَرَابِی: قالین، غالیچہ، نمدہ، موٹا کمبل، زَرِیبَة جمع زَرَائِب: درخت کی شاخوں سے بنایا ہوا جھونپڑا، مویشی کا باڑہ

○ زربول جمع زَرَابِیل و زربُون جمع زرابین: جوتے کی ایک قسم۔

○ زَرَدَ - زَرْدَاه: کا گلا دبانا، گلا گھونٹنا، ٹیٹوا دبانا۔ (کچھ) نگلنا، ہڑپ کرنا، بے تحاشا کھانا۔ اِزْدَرَدَ ہ: کچھ نگلنا۔ زَرْدَة: زردہ۔ زَرَد جمع زُرُود: زرہ بکتر۔ حِمارُ الزَرَد: زیبرا۔ زَرْدِیة: پلاس (Pliers)۔ مَزْرَد: گلا، حلقوم، نرخرا۔

○ زَرْزَرَ: چہچہانا، چوں چوں کرنا، چیں چیں کرنا۔ زُرْزُور و زُرْزُر جمع زَرَازِیر: شارک، گرسل۔ زَرْزُورِی: سینہ داغوں والا خاکستری رنگ کا (گھوڑا)

زرج: ا۔ المُزَرَّج: شراب سے بدمست، متوالا۔

۲۔ زَرْجَنَ ہٗ: کو بیوقوف بنانا، دھوکا دینا۔ و۔ القومُ: کا آپس میں جائیداد تقسیم کرنا۔ الزَرجُون واحد زَرَجُونَة: انگور کی بیلیں، سرخ رنگ، شراب۔

زرح: زَرِحَ - زَرَحاً: ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ جانا۔ الزَارِح (فا) جمع زُرّاح: چست وچالاک۔ الزَرُوح و الزَرُوحَة جمع زَرَاوِح: چھوٹا ٹیلہ۔ المَزرِح: پست زمین۔

زرد: ا۔ زَرَدَ - زَرْداً ہٗ: کا گلا گھونٹنا۔ زرد عینہ علی صاحبہ: وہ اپنے ساتھی پر غضب ناک ہوا اور اس کے ساتھ ترش روئی سے پیش آیا۔ زَرِد - زَرَداً و تَزَرَّد و اِزْدَرَدَ اللُقمةَ: لقمہ تیزی سے نگلنا۔ تَزَرَّدَ الیمینَ: اس نے گناہ سے نڈر کر فوراً قسم کھالی۔ الزَرِد: جلدی نگلنے والا۔ الزَرْدَة: لقمہ۔ الزِراد و المِزْرَد: اونٹ کا گلا گھونٹنے کی رسی۔ الزَرّاد: گلا گھونٹنے کی عادت والا۔ المَزْرَد: حلق، کھانا نگلنے کی نالی۔ المُزْدَرَد (مفع) کہا جاتا ہے۔ اخذہٗ بمُزْدَرَدِہٖ: اس نے اس کو بہت تنگ کیا۔

۲۔ زَرَدَ - زَرْداً الدرعَ: زرہ بننا۔ العقدةَ: اتنی سخت گرہ لگانا جو کھل نہ سکے۔ الزَرَد جمع زُرُود: زرہ (جالی دار بنی ہوئی) حِمارُ الزَرَد (ح) گورخر۔ الزَرّاد: زرہ بنانے والا۔ الزِرادة: زرہ سازی کا پیشہ۔

۳۔ زَرْدَبَ و زَرْدَمَ ہٗ: کا گلا گھونٹنا۔ الطعامَ: کھانا نگلنا۔ الزَرْدَمَة: نگلنے کی جگہ، ہوا کی نالی۔

زَرَط ۔زَرْطاً اللقمۃَ: لقمہ نگلنا۔عام لوگ کہتے ہیں۔"زلط"۔

زرع: ازَرَعَ ۔زَرْعًا: زمین میں بیج ہونا۔و۔ الارضَ: زمین میں بیج ڈالنا، زمین جوتنا۔ اللّٰہُ النباتَ: اللہ کا پودا اگانا اور بڑھانا۔زُرِعَ لہ بعد شقاوۃ: اس نے محتاجی اور غربت کے بعد دولت اور خوشی پائی۔ زَارَعَ مُزَارعَۃً: بونا۔زارَعَ فلاناً: بیج دے کر کسی کو بٹائی پر کھیت دینا۔ازْرَعَ الـزرعُ: کھیتی کا پتے نکالنا، فصل کاٹنا۔ القومُ: کھیتی باڑی کرنے پر قادر ہونا۔اِزْدَرَعَ الرجلُ و ازْدَرَعَ الارضَ: زمین جوتنا اس میں بیج بونا۔

الـزارع جمع زارعـون وزُرّاع (فا): کسان، بیج بونے والا، کاشتکار، بڑے باغات والا۔الـزَرْعُ (مص) جمع زُرُوع: کھیتی، اولاد۔الـزُرعَۃ: بیج۔ والـزُرعَۃ والزِرعَۃ والزَرعۃ: قابلِ کاشت زمین کہتے ہیں ما فی ھذہ الارض زرعۃٌ: اس زمین میں کوئی جگہ قابلِ کاشت نہیں ہے۔الزِرَاعَۃ: کاشتکاری کھیتی باڑی، زراعت کا پیشہ۔الزرّاع جمع زرّاعون و زرّاعۃ: کسان، کاشتکار، چغل خور کیونکہ وہ دلوں میں کینہ کا بیج بوتا ہے۔الزَرّاعۃُ جمع زَرّاعات: زراع کا مونث، کاشتکار عورت کسان عورت، کھیتی، کشت زار۔

الزریع: صرف بارانی کھیت۔الزَرِیْعَۃ: بوئی ہوئی چیز، کاشت شدہ زمین۔الزّرِیع: وہ نباتات جو کھیت کی کٹائی کے بعد گرے ہوئے بیجوں سے اُگ آئے۔ المَزْرَعۃ والمزْرُعۃ جمع مَزارِع: کھیت، درختوں والا رقبہ، باغات، زمینداری، ریاست، تعلقہ۔ المُزْدَرَع: کھیت۔

۲۔تَزَرَّعَ اِلی الشرّ: برائی کی طرف تیزی کرنا، برائی کی طرف مائل ہونا۔

۳۔الــزارع: (ح) ایک کتے کا نام، اس لئے کتوں کو اولاد زارع کہتے ہیں۔

○ زَرْع: بونا، بیج بونا جمع زُرُوع: بیج، سبز کھڑی فصل، کھیت، باغات۔الـزرع والـضرع: کھیتی باڑی، مویشی پالنا۔زِراعَۃ: کاشتکاری، کھیتی باڑی، کاشت، فصل اگانا۔زِراعۃُ البساتین: باغبانی۔زِراعِی: زرعی، زراعتی۔ارض زراعیۃ: قابلِ کاشت زمین۔ طریق زراعی: کچا راستہ، پگڈنڈی۔ذریۃ: بویا یا پودا لگایا ہوا فصل۔زَرّاع جمع زُرّاعۃ و زرّاعون: کسان، کاشتکار، باغات والا۔مَزْرَع: (قابل کاشت) زمین۔ مَزْرَعَۃ جمع مَزارِع: زیر کاشت زمین، کھیت، کھیتی، فارم، درختوں والا رقبہ، باغات، دیہاتی جائیداد۔ مزرعانی: کاشتکار، کسان۔مُزارَعۃ: بٹائی پر دینے کا ارضی معاہدہ۔زارِع جمع زُرّاع: بیج بیچنے والا، بونے والا، کسان، کاشتکار، باغات والا۔مَزْرُوع: کاشت شدہ، پودے لگایا ہوا۔مَزْرُوعۃ جمع مزروعات: ہری فصل، نئی کھڑی فصل۔مُزارِع جمع مُزارِعون: کاشتکار۔

زرف: ازَرَفَ ۔زُرُوفاً و زَرِیفاً الیہ: کے قریب ہونا، کی طرف جلدی کرنا، دیر کرنا (ضد) زَرَفَ الرمحَ فیہ: میں نیزہ بھونکنا۔ازْرَفَ: آگے بڑھنا، جلدی کرنا، (ہزیمت وغیرہ میں)۔ الناقۃَ: اونٹنی کو تیز چلانا۔انـزرف القومُ: قوم کا گھاس اور پانی کی تلاش میں جانا۔و۔تِ الـریحُ: ہوا کا گزرنا۔و۔الشیءُ: چیز کا گھس جانا، آر پار ہو جانا۔الـزَرُوف والـزُرُوف والمِزْرَاف من النوق: تیز رفتار اونٹنی۔

۲۔زَرَفَ ۔زُرُفاً: کودنا۔و۔فی الکلام: گفتگو میں اضافہ کرنا اور جھوٹ بولنا۔زَرَّفَ الشیءَ: میں اضافہ کرنا۔و۔فی الکلام: گفتگو میں زیادہ باتیں بنانا اور جھوٹ بولنا کہتے ہیں۔زَرَّفَ فی السنین: عمر رسیدہ ہونا۔الزُرافۃ: بہت جھوٹا۔

۳۔زَرِفَ ۔زَرَفاً الجرحُ: زخم کا اچھا ہو جانے کے بعد پھر ہرا ہو جانا۔ازرف الجرحُ: زخم کا اچھا ہو جانے کے بعد پھر ہرا ہو جانا۔الزَرّافۃ و الزرافۃ جمع زَرّافات وزرافات: وہ جگہ جہاں کھیت کے لئے پانی نکالا جائے۔

۴۔زَرَّفَہٗ: کو علیحدہ کرنا دور کرنا۔زَرَّفَ القومَ: قوم کو فرقے فرقے کر دینا۔الـزَرافۃ والـزَرّافۃ جمع زرافات: دس بیس افراد کا گروہ۔طاروا الیہ زرافاتٍ و وحدانا: وہ اسکی طرف گروہوں کی شکل میں اور اکیلے اکیلے دوڑے۔

۵۔ازْرَفَ الرجلُ: زرافہ خریدنا۔الزُرافۃ والزَرافۃ والـزَرّافۃ والـزُرّافۃ جمع زَرَافِیّ وزُرافی وزَرائِف (ح) زرافہ انگریزی میں اسے Giraffe کہتے ہیں۔

۶۔زَرْفَنَ شعرَہٗ: بالوں کو حلقہ دار بنانا۔الزَرْفین واحد زُرْفین: حلقہ۔

زرق: ازَرَقَ ۔زَرْقاً الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔الزَرّاقۃ: عوام اسے زاروقہ کہتے ہیں، پچکاری۔

۲۔زَرَقَ ۔زَرْقاً الطائرَ: پرندے کو چھوٹے نیزے سے مارنا۔عام لوگ کہتے ہیں۔مزرق النجمُ: ستارہ ٹوٹ کر گرا۔انزرق السھمُ: تیز کا گھسنا اور آر پار ہونا۔المِزْراق جمع مزاریق: چھوٹا نیزہ۔

۳۔زَرَقَہٗ بعینہ نحوی: اس نے میری طرف کنکھیوں سے دیکھا۔۔۔الرجلَ ببصرہ: (کو) گھورنا۔زَرِقَ ۔زَرَقاً الرجلُ: اندھا ہونا۔ازْرَقَّتْ عینہ نحوی: اس نے میری طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ازْرَقَّ ازْرِقاقاً وازراقّ ازْرِیقاقاً تْ عینہ نحوی: اس نے میری طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ الَزرَق: گھوڑے کا سفید ٹانگوں والا ہونا۔الزُرَّق: تیز نظر والا، گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔و۔ جمع زَرارِق (ح) ایک شکاری پرندہ۔الاَزْرَق: (ح) باز۔زرقاء الیمامۃ: فاختہ۔

۴۔زَرَقَ ۔زُرُقاً تِ الناقۃُ الرحْلَ: اونٹنی کا کجاوے کو پیچھے کی طرف ہٹانا۔ازْرَقَتِ الناقۃ حملھا: اونٹنی کا بوجھ کو پیچھے کی طرف ہٹانا۔انْزَرَقَ: پیچھے ہٹنا، چت لیٹنا۔المِزْراق جمع مَزارِیق من الاباعر: پیچھے کی طرف بوجھ ہٹانے والا اونٹ۔

۵۔زَرِقَ ۔زَرَقاً تْ عینُہٗ: کی آنکھ کا نیلا ہونا۔الشیءُ: چیز کا نیلگوں ہونا۔ازْرَقّ ازْرِقاقاً و ازراقّ ازریقاقاً: نیلا یا آسمانی رنگ کا ہونا۔الزَرَق و الزُرْقۃ: نیلا رنگ، آسمانی رنگ۔الـزَرَقۃ: تعویذ کا مہرہ۔الـزُرَیْق و ابوزُرَیق: نیل کنٹھ۔الاَزْرَق م زَرْقاء جمع زُرْق: نیلگون۔عدوٌّ ازرق: سخت دشمنی والا دشمن۔نصلٌ اَزْرَق: چمکتا ہوا تیر کا پھل۔ماءٌ ازرق: صاف پانی۔ الزُرْق: دانتوں اور نیزے وغیرہ کے پھلوں سے کنایہ۔ الازارِقۃ: جن کا واحد الازرقی ہے نافع بن الازرق کے ساتھیوں پر مشتمل خوارج کا ایک فرقہ، جنہوں نے مخالفوں کو قتل اور انکی عورتوں کو لونڈیاں بنانا جائز قرار دیا۔الزَرْقاء جمع زُرْق: ازرق کا مونث، آسمان، شراب۔الـزُرَیْقاء (ح) بلی سے مشابہ جانور لیکن اس کی ٹانگیں چھوٹی اور جسم بلی سے لمبا ہوتا ہے دودھ اور تیل میں بھگویا ہوا کھانا۔

۶۔الـزُرْقُم جمع زَرَاقِم: گہرا آسمانی (مذکر اور مونث دونوں کے لئے آتا ہے) الـزَراقِم (ح) بہت سے سانپ۔

○ زَرَقَ ۔زُرُقاً ہ ب: کو چوٹ لگانا، کو سے چیرنا۔۔۔ ھ: کچھ پھینکنا۔زرق الابر: ٹیکے۔مِزْراق جمع مَزارِیق: کھیل کا نیزہ۔زرِق ۔۔۔زَرَقاً و ازْرَقّ: نیلا ہونا۔ زَرَق: نیلا، نیلاہٹ، نیلا رنگ سبز موتیا Glaucoma۔زُرْقۃ: نیلا، نیلاہٹ، نیلا رنگ، سیاہ یرقان Cyanosis۔ازْرَق م زَرْقاء جمع زُرْق: نیلا۔الـزَرْقاء: نیلا آسمان۔ازرقاق: نیلاہٹ۔داءُ الازرقاق: سیاہ یرقان Cyanosis۔ زرقون: چمکدار نیلا۔

زرك: زَرِكَ - زَرَكاً: بدخلق ہونا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ زَرَكَهُ یعنی اسے تنگ کیا۔

○ زَرْكَش: زرلعت، کم خواب، دیبا، نقرئی وزرین سوزن کاری۔ مُزَرْكَش: زربفت، ــ ب: نقرئی، وزرین دھاگے سے سوزن کاری کیا ہوا۔

زرم: ا۔ زَرَمَ - زَرْماً ہُ: کو کاٹنا کہتے ہیں۔ زَرَمَتْ بِهٖ اُمُّهٗ: اس کو اس کی ماں نے جنا۔ زَرِمَ - زَرَماً الشّیءُ: چیز کا منقطع ہونا۔ زَرَّمَ و اَزْرَمَ ہُ: (کو) کاٹنا کہا جاتا ہے۔ زَرَّمَهُ الدَّهرُ: زمانہ نے اس کی خیر کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ الازرم: منقطع (ح) بلی۔ السَّزرِم: ذلیل تھوڑے جتھے والا، کنجوس، تنگ حال۔ الزَرِیم: ذلیل، تھوڑے جتھے والا۔

۲۔ اِزْرَأَمّ: سکڑنا، غضبناک ہونا۔

۳۔ اِزْدَرَمَ ہُ: (کو) نگلنا۔

زرن: ا۔ الزَرْنَب: (ح) نیل گائے۔

۲۔ الزِرْنِیخ (ك): ہڑتال، سنکھیا، سم الفار۔

۳۔ زَرْنَقَ زَرْنَقَةً فُلاناً اللّباسَ: (کو) لباس پہنانا۔ تَزَرْنَقَ بالثیاب: لباس پہننا اور اس سے اپنے آپ کو ڈھکنا۔

۴۔ زَرْنَقَ زَرْنَقَةً الارضَ: زمین کو کھال سے سیراب کرنا، عام لوگ کہتے ہیں۔ زرنق: اس نے لوٹے سے پانی پیا مگر اچھی طرح نہیں چوسا۔ تَزَرْنَقَ الرجلُ: آدمی کا اجرت دیکر پانی کی ٹانی کے ذریعے پانی مانگنا۔ الزُرْنُوق: چھوٹی نہر، کھال، پانی کی نالی۔

۵۔ تَزَرْنَقَ: سود پر خریدنا۔ الزَرْنَقَة: سود، زیادتی۔

۶۔ الزَرْنَقَة: حسن کامل۔ الزِرْنِیق (ك): ہڑتال۔

زری: زَرَی - زَرْیاً و زُرِیاً و زَرَایَةً و مَزْرِیَةً و مَزَارَةً و تَزَرّیٰ علیه عملَه: کسی کو کسی کام پر عتاب کرنا، عیب لگانا۔ زَارَی مُزَارَاةً ہُ: کو عتاب کرنا۔ اَزْرَی بالامرِ: کسی امر میں سستی کرنا۔ و۔ بہٖ و اَزْرَاہُ: (کی) بدگوئی کرنا اور اس کا حق کم کرنا۔ ــ علیه عملَه: کو اس کے کام پر معتوب کرنا۔ کو اس کے کام پر عیب لگانا۔ اِزْدَرَی و اِستَزْرَی ہُ: کو حقیر جاننا (کا) استخفاف کرنا۔ الزَرِیّ: برا اور حقیر شخص جسے کسی شمار میں نہ لایا جائے۔ المِزْرَاء: لوگوں کو حقیر جاننے والا، لوگوں کا عیب گیر۔

○ زَرَی - زِرَایَةً علی: کو جھاڑ، جھپاڑ کرنا۔ ــ علی ہ: کی کسی وجہ سے عیب جوئی کرنا۔ ــ علی / ب: کا گالیاں دینا، اَزْرَی ب: کا مذاق اڑانا۔ تَزَرّیٰ بمعنی زَرَی ــ اِزْدَرَی ہ / ب / ب: کی سبکی کرنا، کے متعلق بری رائے رکھنا، کو حقیر جاننا۔ ــ ب: خطرہ کو خاطر میں نہ لانا۔

استزری بمعنی اِزْدَرَی۔ زَرِیّ: برا، بہت خراب، حقارت، مہمیز، قابل مذمت ذلت، سبکی، حقارت، تحقیر، بدنامی، ناقدری۔ اِزْرَاء: ذلت، سبکی، بے التفاتی، بے پروائی۔ اِزْدِرَاء: ذلت، سبکی، حقارت، تحقیر۔ مُزْرٍی: حقارت آمیز، قابل مذمت، لائق مذمت۔

زط: زَطَّ - زَطّاً الذبابُ: مکھی کا بھنبھنانا۔

زع: زعزع زَعْزَعَةً ہُ: کو زور سے ہلانا۔ و۔ الابلَ فی السیر: اونٹ کو ہانکنا۔ تَزَعْزَعَ: حرکت میں آنا، ہلنا۔ الزَعْزَعَة جمع زَعَازِع (مص) الزَعَازِع: مصائب زمانہ۔ ریحٌ زَعْزَعٌ و زُعْزُعٌ و زَعْزَاعٌ و زُعَازِعٌ و زَعْزَعَانٌ: آندھی، طوفان باد۔ جَرْیٌ زَعْزَعٌ: تیز دوڑ۔

زعب: ا۔ زَعَبَ - زَعْباً الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ و۔ القِرْبةَ: بھری ہوئی مشک اٹھانا۔ و۔ تِ القِربةُ: مشک کا اپنا پانی نکال دینا۔ و۔ السیلُ: سیلاب کا وادی کو بھر دینا اور پانی کا زور ہونا۔ و۔ الوادی: وادی کا بھر جانا۔ تَزَعَّبَ فی اکلِه و شربِه: زیادہ کھانا اور پینا۔ سیلٌ زَاعِبٌ و زَعُوبٌ: سیلاب جو وادی کو بھر دے۔

۲۔ زَعَبَ - زَعْباً الشیءَ: چیز کو کاٹنا۔ و۔ زِعباً و زَعْبَةً و زُعْبَةً لہ من المال: کو مال کا ایک حصہ دینا۔ تَزَعَّبَ القومُ المالَ: لوگوں کا مال کو آپس میں بانٹنا۔ اِزْدَعَبَ الشیءَ: چیز کو اپنے لئے لینا۔ الزَعْبَةُ و الزُعْبَةُ و الزِعْب: مال کا ایک حصہ۔

۳۔ زَعَبَ - زَعِیباً الغرابُ: کوے کا کھنک کر کائیں کائیں کرنا۔

۴۔ تَزَعَّبَ: غیظ و غضب میں آنا۔ ۵۔ تَزَعَّبَ: چست ہونا۔

۶۔ الاَزْعَبُ م زَعْبَاءُ جمع زُعْب: موٹا کمینہ پستہ قد۔ الزُعْبُوب: پستہ قد کمینہ شخص۔

۷۔ زَعْبَقَ القومَ: لوگوں کو متفرق کرنا۔ و۔ الشیءَ: چیز کو جدا جدا کرنا، بکھیرنا۔ تَزَعْبَقَ الشیءُ من یدی: چیز میرے ہاتھ سے بکھر گئی۔ متفرق ہو گئی۔

۸۔ زَعْبَل: موٹے بدن اور پتلی گردن والا ہونا۔ الزَعْبَل جمع زَعَابِل: موٹے جسم اور پتلی گردن والا (ح) اژدہا، ذول (ح) گرگٹ۔

○ زَعْبَرَ علی: کو دھوکا دینا، سے دغابازی کرنا۔

○ زَعْبُوط جمع زَعَابِیط: اونی کپڑا، اونی لباس جو فلاحین پہنتے ہیں۔

○ زَعْتَر بمعنی سعتر

زعج: ا۔ زَعَجَ - زَعْجاً ہُ: (کو) بے قرار کرنا اور اپنی جگہ سے ہٹا دینا، دھتکارنا، نکال باہر کرنا۔ اَزْعَجَ ہُ: کو بے قرار کرنا، پریشان کرنا۔ و۔ ہُ الی المعصیة: (کو) گناہ کی طرف لے جانا۔ اِنْزَعَجَ: بے قرار ہونا، بے چین ہونا، ہٹنا۔ الزَعَج: بے قراری، بے چینی، بے آرامی۔ المِزْعَاج: ایک جگہ نہ ٹھہرنے والی عورت۔

۲۔ زَعَجَ - زَعْجاً الرجلُ: (کا) چلانا۔

○ زَعَّجَ و اَزْعَجَ ہ: کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، کو جان بوجھ کر چھیڑنا، دق کرنا، تنگ کرنا، بے چین کرنا۔ ــ ہ عن / من: کو کسی جگہ سے ہلانا، نیند وغیرہ سے جگانا، کو کسی جگہ سے لے جانا۔ اِنْزَعَجَ: جوش میں آنا، برانگیختہ ہونا۔ ــ من: سے دہشت زدہ ہونا، خوف زدہ ہونا، کے بارے میں بے چینی محسوس کرنا۔ زَعَج: گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی۔ اِزْعَاج: ہلچل، گڑبڑ۔ اِنْزِعَاج: تکلیف، بے کلی، بے چینی، بے آرامی، الجھن، پریشانی، ہلچل، گڑبڑ۔ مُزْعِج: برہم کن، تکلیف دہ، ناگوار، ناخوش گوار، تنگ کرنے والا، پریشان کن، تشویش ناک۔ مُزْعِجَات: پریشانیاں، تکالیف، مصائب، بے کلیاں۔

زعر: ا۔ زَعِرَ - زَعَراً و اِزْعَرَّ و اِزْعَارَّ شعرُهٗ او ریشُهٗ: (کے) بالوں یا پروں کا کم ہونا اور بکھرا ہوا ہونا جس سے کھال ننگی ہو جائے۔ و۔ الرجلُ: آدمی کا بے خیر ہونا۔ الزَعِرُ و الاَزْعَرُ: کم اور بکھرے ہوئے بالوں والا۔ موضعٌ زَعِرٌ و اَزْعَرُ م زَعِرَة و زَعْرَاءُ: کم سبزی والی جگہ۔ الزُعْرُور: واحد زُعْرُورَة (ن) ایک سرخ پھل والا درخت، جس کے پھل کی گٹھلی سخت اور گول ہوتی ہے اور گودا کم ــ الجرملی او البستانی (ن) ایک پھلوار درخت جو معتدل اور ٹھنڈے علاقوں میں بویا جاتا ہے اس کا پھل چھوٹے سیب کی طرح ہوتا ہے پکنے پر کھایا جاتا ہے موسمی تغیرات کا مقابلہ کرتا ہے۔ رجلٌ زُعْرُور جمع زَعَارِیر: بدخلق، بے خیر۔

۲۔ الزُعْرُورَة (ح) مضطرب اور خوفزدہ رہنے والا، ایک پرندہ۔ الاَزْعَر م زَعِرَة و زَعْرَاء جمع زُعْر و زُعْرَان: چور، اچکا، سرکش۔ الزُعْرَان: نوجوان لوگ۔ الزَعَارَة و الزَعَارَّة: بدخوئی، تندمزاجی، کمینگی، کینہ جوئی۔ اہل الزَعَارَة: آوارہ گرد لوگ۔ الزَعَارِیر: اون کے کناروں پر چپٹنے والے گوبر وغیرہ کے ٹکڑے۔

○ زَعِر: پتلے بالوں والا۔

زعط: زَعَطَ - زَعْطاً ہُ: کا گلا گھونٹنا۔ موتٌ زَاعِطٌ: جلدی کی موت۔

○ اَزْعَر م زَعْرَاء: پتلے بالوں والا، بے دم۔ اَزْعَر جمع

زُعران: رہزن، پتے باز، بدذات۔ موتٌ زاعِطٌ: ناگہانی موت۔
○ زعَط: ہانک لے جانا۔
زعف-۱۔ زَعَفَ-زَعْفاهُ: (کو) موقع پر فوراً ہی مار ڈالنا۔ زَعَفَ الجریحَ: زخمی کا کام تمام کر دینا۔ ازْعَفَ هُ: (کو) موقع پر فوراً ہی مار ڈالنا۔ و۔ علی الجریح: زخمی کا کام تمام کر دینا۔ اِزْدَعَفَ هُ: (کو) موقع پر فوراً مار ڈالنا۔ سُمٌّ زُعافٌ: سم قاتل، فوراً ہلاک کر دینے والا زہر۔ المزعُوف: ہلاکت کی جگہیں، خطرناک مقامات۔ موتٌ مُزْعِف: فوراً ہلاک کر دینے والی موت، ناگہانی موت۔ سیفٌ مُزعِفٌ: جلد ہلاک کرنے والی تلوار۔
۲۔ زَعَفَ-زَعْفاً الحدیثَ: بات میں جھوٹ شامل کرنا۔
۳۔ زَعْفَرهُ: کو زعفرانی رنگ دینا۔ و۔ الطعام: کھانے میں زعفران ڈالنا۔ تَزَعْفَرَ: زعفران سے خوشبودار ہونا۔ زعفران میں لتھڑنا، زعفران بسا ہونا۔ الزعفران: (ن) زعفران، کیسر۔ زعفرانُ الحدید: لوہے کا زنگ۔
۴۔ الزُعافِق جمع زَعافِق: بخیل۔ بدخلق۔
زعق: ۱۔ زَعَقَ-زَعْقاً: چلانا، چیخنا۔ و۔ بالدابة: جانور کو زور سے بول کر ہانکنا۔ الزَعْقة: چیخ، پکار۔ الزَعّاق: جانوروں کے پیچھے اونچی آواز میں بولتے ہوئے دور کرنے والا۔
۲۔ زَعَقَ-زَعْقاً وبه: (کو) ڈرانا، خوف دلانا۔ زَعِقَ-زَعَقاً و زُعِقَ وانْزَعَقَ الرجلُ: آدمی کا رات کو ڈرنا۔ ازْعَقَ هُ: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا۔ الزَعِق: رات کو ڈرنے والا وہ شخص جسے خوشی کے ساتھ ڈر بھی ہو۔ المزعِیق: خوف زدہ۔
۳۔ زَعَقَ-زَعْقاً القِدرَ: ہانڈی میں بہت سا نمک ڈالنا۔ زَعُقَ-زُعاقةً الماءُ: پانی کا کڑوا ہونا کہ پیا نہ جاسکے۔ ازْعَقَ القِدْرَ: ہانڈی میں بہت سا نمک ڈالنا۔ الزُعاق: سخت کڑوا، پانی جو پیا نہ جاسکے۔ الزُعْقوقة: زعاق کا اسم۔
۴۔ زَعَقَ-زَعْقاتِ الریحُ التراب: ہوا کا مٹی اڑانا۔ زَعِقَ-زَعَقاً: خوش و شادمان ہونا۔ ازْعَقَ السیرَ: چلنے میں جلدی کرنا۔ انْزَعَقَ الفرسُ: گھوڑے کا آگے بڑھنا اور تیز چلنا۔ الزَعّاق من الخیل: بہت اور تیز چلنے والا گھوڑا۔
۵۔ زَعَقَ-زَعْقاً تْهُ العقربُ: کو بچھو کا ڈسنا۔
○ زُعْق و زَعِیق: شور و غوغا، چلانا، چیخنا، چیخ مارنا۔
زعل: ۱۔ زَعِلَ-زَعَلاً: شادمان ہونا، چست ہونا، ازْعَلَ هُ: (کو) خوش کرنا، چست کرنا۔ تَزَعَّلَ: شادمان ہونا، چست ہونا۔ الزَعِل و الزَعْلان والازْعِیل: شادمان، چست۔
۲۔ زَعِلَ-زَعَلاً من المرض وغیرہ: بیماری وغیرہ سے اکتا جانا اور مضطرب ہونا، عوام کہتے ہیں۔ "زعل منه" وہ اس سے ناخوش ہے۔ ایسا شخص زعلان کہلاتا ہے۔ ازْعَلَ هُ من مکانِهِ: کو اس کی جگہ سے ہٹانا۔ الزَعِل: بھوک سے بیتاب۔
○ زَعِلَ-زَعَلاً من: سے اکتا جانا، بیزار ہونا۔ --: ناراض ہونا، غصے ہونا، برہم ہونا۔ زَعَّلَ هُ: کو برہم کرنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ ازْعَلَ هُ: کو برہم کرنا، تکلیف دینا، زحمت دینا۔ زَعَل: خفگی، غصہ، آزردگی، برہمی، جھلاہٹ، پریشانی۔ زَعِل: برہم، ناراض، غصے، پریشان۔ زَعْلان: ایضاً زَعُولة: برہمی، غصہ، جھلاہٹ، پریشانی۔
زعم: ۱۔ زَعَمَ-ـُ زَعْماً و زِعْماً و زُعْماً و مَزْعماً: کوئی سچی یا جھوٹی بات کہنا (اس کا استعمال بیشتر شکی یا جھوٹی باتوں میں ہوتا ہے)۔ گمان کرنا۔ دعویٰ کرنا۔ تَزَعَّمَ: جھوٹی باتیں کہنا۔ و۔ القومُ علی الامرِ: آپس میں غیر وثوقی باتیں کرنا۔ الزُعْمة جمع زُعَمات: زعم کا اسم مرہ۔ کہتے ہیں۔ (هذا ولا زَعَماتِكَ او زَعَماتِكَ) یعنی صحیح تو یہ ہے نہ کہ جو تم کہتے ہو۔ الزَعَمات: غیر وثوقی باتیں۔ الزُعْمِیّ: (ضد) جھوٹا، سچا۔ المَزْعَم: (مص) گمان کہتے ہیں۔ هذا امرٌ مَزْعَمٌ: یہ ایک غیر وثوقی بات ہے اس میں ہر ایک اپنا خیال ظاہر کرتا ہے۔ المَزاعِمُ: کہتے ہیں۔ هذا امرٌ فیه مَزاعِمُ: یہ متنازعہ معاملہ ہے۔
۲۔ زَعَمَ-ـُ زَعامةً علی القوم: کسی قوم کا سربراہ یا پیشوا ہونا۔ زَعَّمَ هُ: کسی جگہ بھیڑ کرنا۔ ازْعَمَ الیه: کسی کا مطیع و فرمانبردار ہونا۔ و۔ علی القوم: قوم کا سربراہ ہوجانا۔ تَزَعَّمَ القومَ: کا پیشوا، قائد، لیڈر ہوجانا۔ و۔ حزباً اونحوه: کا صدر یا سربراہ ہوجانا۔ الزَعِیم جمع زُعَماء: آقا، صدر، سربراہ (اع) کرنل کے برابر، فوجی منصب۔ الزَعامة: شرافت، شرف برداری، سربراہی، بہترین یا زیادہ مال، ہتھیار، زرہ۔
۳۔ زَعَمَ-ـُ زَعْماً بالمال: مالی کفیل و ضامن ہونا۔ الزَعَم، الزَعامة: اس کا ایک نام (کفالت)۔ ازْعَمَ هُ المالَ: کو مال کا کفیل و ضامن بنانا۔ و۔ الامرُ: کام کا ممکن ہونا۔ تَزاعَمَ القومُ علی الامرِ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ الزعیم جمع زُعَماء: کفیل، ضامن۔
۴۔ زَعَمَ-ـُ زَعْماً اللبنُ: دودھ کا خوش گوار ہونے لگنا۔ ازْعَمَ اللبنُ: ایضاً۔ و۔ تِ الارضُ: زمین میں سبزہ کا پھوٹنا۔ الزَعِم من الشواء (ط): بہت چربی والا کہ آگ پر رکھتے ہی پگھل جائے۔
۵۔ زَعِمَ-زَعَماً فیه: کا لالچ کرنا۔ المَزْعَم: لالچ۔ ازْعَمَ هُ: (کو) کھلانا۔
۶۔ الزَغوم: عاجز از کلام۔ المزْعامة: سانپ۔
○ زَعَمَ-ـُ زَعْماً ان: بڑے وثوق سے کہنا کہ، کہنا کہ۔ ل ان: سے بیان کرنا کہ --: یقین کرنا۔ ہ ھ: کو غلطی سے کچھ سمجھ بیٹھنا، کو کچھ خیال کرنا یا سمجھنا۔ زعم لِنَفْسِهِ ھ: کا دعویٰ کرنا۔ پرحق جتانا۔ تَزَعَّمَ: لیڈر بن جانا۔ ب۔ ہ: کا لیڈر ہونا۔ -- ھ: (فوجی دستہ وغیرہ کی) کمان کرنا، قیادت کرنا۔ --: لیڈر بن بیٹھنا، اپنے آپ کو لیڈر ظاہر کرنا۔ فی زَعْمِهِم: جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے۔ زَعِیم جمع زُعَماء: لیڈر، رنگ لیڈر، کرنل، بریگیڈیر جنرل۔ - ب: کا ضامن۔ زَعامة: لیڈرشپ، قیادت، سیاست میں قائدانہ حیثیت۔ مَزاعِم: دعوے، الزامات، قیاسات، مفروضے۔ مزعوم: دعویٰ کیا ہوا، مبینہ، نام نہاد۔
زعن: زَعْنَفَ تِ الماشِطةُ العروسَ: مشاطہ کا دلہن کو آراستہ کرنا۔ الزِعْنِفة و الزِعْنِفة جمع زَعانِف: پست قد، ہر چیز کا حصہ، اطراف بدن جیسے ہاتھ، پیر قبیلہ کا ایک ٹکڑا جو اکیلا ہو یا دوسرے میں شامل ہو جائے، کپڑے کا ٹکڑا یا پھٹا ہوا دامن، چیز کا ردی حصہ، کمینہ، مصیبت۔ الزَعانِفُ: مچھلی کے پر، مخلوط گروہ جو ایک نسل سے نہ ہوں۔
○ زِعْنِفة جمع زَعانِف: ہجوم، ٹولی، انبوہ، اراذل۔ مچھلی کے پر۔
زعا: زعا-زُعُوّاً: منصف ہونا، عادل ہونا۔
زغ: ۱۔ زَغْزَغَ الکلامَ: رکیک گفتگو کرنا۔ و۔ بالرجلِ: سے ٹھٹھا کرنا، سے تمسخر کرنا، ہنسی مذاق کرنا۔ الزَغْزَغ: سبک و چست آدمی۔ حسب و نسب میں مطعون۔
۲۔ زَغْزَغَ الشیءَ: (کو) چھپانا۔
۳۔ الزُغْزُغ: پست قد۔ ایک پرندہ۔ الزُغْزُغِیّة: بعض عجم کی زبان۔
زغب: ۱۔ زَغِبَ-زَغَباً و زَغَّبَ وازْغابَّ الصبیُّ او الفرخُ: بچے یا چوزہ کا رواں نکلنا۔ ایسا بچہ یا چوزہ زَغِبٌ کہلاتا ہے۔ ازْغَبَ الکرمُ: انگور کی بیل کا پتہ دار ہونا۔ الزَغَب واحد زَغَبة: پروں یا بالوں کی روئیں۔ چھوٹے بالوں یا پروں والے زُغْبُ البراعِم: پہلے بال یا پر جو نباتات کے غنچوں کو ڈھک لیتے ہیں۔ خصوصاً انگور کی بیل کے غنچے عرب اور اہل ہند کھجور کے

پہلے نکلنے والے بالوں سے بعض قسم کے کپڑے بنایا کرتے تھے۔ بعض جانوروں جیسے گائے بھینس اور کھجوروں کے گھنے بال۔ جوزین اور عرق گیر کو استر لگانے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ الأزغب م زَغباء جمع زُغْبٌ: روئیں دار (ح) تیتر کا چوزہ۔ الزُغبة (ح) گلہری۔ الزُغابة و الزُغابی: بہت چھوٹے روئیں، بہت نرم پر یا بال کہتے ہیں۔ ما اصبت منه زُغابة: میں نے اس سے روئیں برابر بھی کچھ نہیں لیا۔ الزُغبُب: پستہ قد، بخیل۔

○ زَغِبَ: روئیں زَغِبٌ: روئیں دار۔ ازغب ایضاً۔

۲۔ زَغْبَرَ الثوبُ: کپڑے کا روئیں دار ہونا۔ الزغبر: رواں کہتے ہیں۔ اخذ الشیءَ بزغبره: یعنی اس نے ساری چیز لے لی۔ الزِغبِرة: چھوٹے پر، صحیح لفظ الزغب ہے، کپڑے کا رواں فصیح الزئبرة ہے۔ الزغب الزغبر: بمعنی زغبر۔

زغد: ۱۔ زَغَدَ - زَغْداً السقاءَ: مشک کو نچوڑنا۔ و۔ فلاناً: کا حلق دبانا۔ و۔ البعیرُ: اونٹ کا بہت بلبلانا۔ و۔ النهرُ: دریا کا چڑھنا۔ زَغَدَتِ المرأة ولدها: عورت کا بچے کو دودھ پلانا۔ الزغیدُ والزغیدة: مکھن جو مشک دبانے پر پھوٹ کر نکلے۔ نہرٌ زَغّاد: پانی سے لبریز موجیں مارتا دریا۔

۲۔ زَغَدَ - زَغْداً هُ بالکلام: کو باتوں سے اکسانا، بھڑکانا۔

○ زَغَدَ - زَغْداه: کو کہنی مارنا۔

زغر: ۱۔ زَغَرَ - زَغْراً الشیءَ: (کو) چھیننا، غصب کرنا۔

۲۔ زَغِرَ - زَغَراً الشیءُ: چیز کا بکثرت ہونا۔ و۔ البحرُ: دریا کا چڑھنا، موج زن ہونا۔ الزغر و الزغر من کل شیء: ہر چیز کی کثرت اور افراط۔

○ زغر ل/ الی: کو حیرانی یا شک کی نظر سے دیکھنا، بری نظر ڈالنا۔

۳۔ زَغْرَبَ: ہنسنا۔ الزغرب: بہت پانی۔ بئر زُغْرُبٌ و زُغْرُبة: بہت پانی والا کنواں۔

۴۔ زَغْرَدَ زَغْرَدةً البعیرُ: اونٹ کا بلبلانا اور بلبلا کر اپنے حلق میں بار بار لوٹانا۔ زغردة النساء جمع زغارید: عورتوں کی مسرت کے وقت آواز۔

○ زَغْزَغَ ہ: کو چھپانا، مخفی رکھنا۔ — ہ: کو گدگدانا، گدگدی کرنا۔

○ زُغْطَة: ہچکی۔

زغف: ۱۔ زَغَفَ - زَغْفاً الماءُ: پانی کا بہت ہونا۔ و۔ فی حدیثه: بہت باتیں کرنا اور اس میں جھوٹ کی آمیزش کرنا۔ کہتے ہیں۔ زَغَفَ کلاماً کثیراً: یعنی اس نے لمبی گفتگو کی۔ وزغف لنا مالاً کثیراً: یعنی اس نے ہم کو بہت مال دیا۔ اِزْدَغَفَ الشیءَ: زیادہ یا سارا مال لینا۔ الزَّغف (مص): برس کر آسمان پر چھایا ہوا بادل۔ الزغّاف: بہت باتیں کرنے والا۔ المِزغف: حریص، لالچی۔

۲۔ زَغَفَ - زَغْفاً هُ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ الزَغْف (مص): بڑی اور لمبی زرہ۔ درع زَغِیف: کشادہ مضبوط کڑیوں والی زرہ کہتے ہیں۔ دروع زَغْفٌ و زَغَفٌ و ازغافٌ و زُغوفٌ: کشادہ، مضبوط کڑیوں والی زرہیں۔ الزغفة و الزغفة: کشادہ اور مضبوط زرہ۔

۳۔ الزَغَف: جلانے کی لکڑی کے باریک ٹکڑے، درخت کی نازک شاخیں۔

زغل: زَغَلَ - زَغْلاً الماءَ: پانی کو بار بار ڈالنا یا گرانا۔ و۔ الشرابَ: پانی کی کلی کرنا۔ و۔ الصبیُّ اُمَّهُ: بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ عوام کہتے ہیں۔ زَغَلَ الذهبَ وغیرہ: سونے وغیرہ میں ملاوٹ کرنا۔ اَزْغَلَ الماءَ: پانی ڈالنا۔ و۔ تِ الامُ ولدها: ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا۔ و۔ الطائرُ فرخهُ: پرندے کا اپنے چوزے کو چوگا دینا۔ و۔ الشرابَ: پانی کی کلی کرنا۔ الزَغَل: دھوکا، کھوٹ، ملاوٹ۔ الزُغَلِیّ: دھوکے باز۔ الزُغْلة: وہ پانی جو آپ کلی کرتے ہوئے اپنے منہ سے نکالیں۔ ایک بار کا پانی گرانا یا ڈالنا۔ ایک مرتبہ پانی گرانے کی مقدار۔ الزُغلول جمع غَالِیل: بچہ، کبوتر کا چوزہ، چست پھرتیلا آدمی۔

زغم: تَزَغَّمَ الجملُ: اونٹ کا اپنی جھاگوں کو اپنے جبڑوں میں پھرانا کہتے ہیں۔ تزغم الرجل: آدمی کا غصہ سے بولنا۔ الزغوم و الزُغموم: ہکلا، اٹک اٹک کر بولنے والا۔

زف: ۱۔ زَفَّ - زَفّاً و زُفوفاً و زَفِیفاً: جلدی کرنا، تیز چلنا۔ و۔ تِ الریحُ: ہوا کا آہستہ چلنا۔ و۔ زَفّاً و زَفِیفاً الطائرُ: پرندہ کا پر پھیلا کر اترنا۔ و۔ زَفّاً و زفافاً البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ ازفّ الرجل: آدمی کا تیز دوڑنا۔ و۔ هُ: کو تیز دوڑانا۔ اِسْتَزَفَّ هُ السیلُ: سیلاب کا (کو) بہالے جانا۔ و۔ هُ السیرُ: (کو) سبک بنانا۔ الزُفه: زُمرہ۔ الزَفّة: زف کا اسم مرة کہتے ہیں۔ جئتهُ زفّة او زفّتین: میں اس کے پاس ایک یا دو دفعہ آیا۔ الأزفّ: تیز رفتار۔ الزفیف و الزفان و الزفّاف: تیز رفتار اور ہلکا پھلکا۔ الزَفُوف: شتر مرغ۔ و۔ من النوق: تیز رفتار اچھی چال کی اونٹنی۔ قوس زفوف: لچک دار کمان۔

۲۔ زَفَّ - زَفّاً و زِفافاً العروسَ الی زوجها: دلہن کو دولہا کے پاس بھیجنا۔ ازفّ العروسَ الی زوجها: دلہن کو دولہا کے پاس بھیجنا۔ اِزْدَفَّ العروسَ: دلہن کو دولہا کے پاس بھیجنا۔ و۔ الحِمْلَ: بوجھ اٹھانا۔ زَفّة العروس: دلہن کے گرد اظہار مسرت کے لئے چکر لگانا۔ المزفّة: ڈولی، پالکی۔

۳۔ الزِفّ: چھوٹے چھوٹے پر۔ الزفَف: پرندہ کے گھنے اور ایک پر ایک چڑھے ہوئے روئیں۔ الأزفّ: باریک اور گھنے پروں والا۔

۴۔ زَفْزَفَ الرجل: تیز دوڑنا، اچھی چال چلنا۔ و۔ الطائرُ: پرندہ کا اپنے پر پھیلا اپنے آپ کو نیچے اتارنا۔ و۔ تِ الریحُ الحشیش: ہوا کا گھاس کو ہلا کر اس میں سے سائیں سائیں کی آواز نکالنا۔ و۔ المرکبُ: سواری کے چلنے سے آواز سنائی دینا۔ الزفزف: پیہم تیز چلنے والی ہوا۔ الزفزاف: پیہم تیز چلنے والی ہوا۔ (ح) شتر مرغ، ہلکا۔

○ زَفَّ - زَفّاً و زُفوفاً: جلدی کرنا۔ — زَفّاً و زِفافاً ها الی/علی: برات میں دلہن کو دولہا کے پاس لیجانا۔ زُفَّتْ الی: لڑکی کی کسی سے شادی ہو جانا۔ زفّ الی ہ: کو کی اطلاع دینا۔ الیہ کو کچھ بتانا۔ زَفَّ البُشری الیہ: کو خوشخبری دینا۔ زفّة: لوگوں کا جلوس، برات۔ زَفّة: ایک بار، ایک دفعہ، ایک مرتبہ۔ زِفاف: شادی، شادی کی تقریب۔ لیلة الزفاف: سہاگ رات۔ زَفُوف: شتر مرغ، بیڑا، تیز رفتار اونٹ۔ زَفِیف: ہوا کی سائیں سائیں، ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔ مِزَفّة: دلہن کی ڈولی، پالکی۔

زفت: زَفَتَ - زَفْتاً الاناءَ: برتن کو بھر دینا۔ و۔ الرجلَ: آدمی کو ناراض کرنا، روکنا، دھتکارنا، تھکانا کہتے ہیں۔ زَفَتَ الحدیثَ فی اذن الأصمّ: یعنی اس نے بہرے کے کان میں بات ڈال دی۔ زُفِّتَتِ السفینة: کشتی پر زفت ملنا۔ الزِفت: رال۔

○ زَفَّتَ: رال لگانا۔ — ہ: (سڑک پر) اسفالٹ بچھانا۔

زِفت: رال، اسفالٹ۔ زفت و قطران: ناخوشگوار، برہم کن، تکلیف دہ، بدنصیبی۔ مِزفتة جمع مَزافِت: اسفالٹ بچھانے کی مشین۔ تزفیت: اسفالٹ بچھانا۔

زفد: زَفَدَ - زَفْداً الاناءَ: برتن کو بھر دینا۔ — فرسهُ شعیراً: گھوڑے کو بہت جو کھلانا۔ اِزْدَفَدَ المالَ: سارا مال لے لینا۔

زفر: ۱۔ زَفَرَ - زَفْراً و زَفِیراً تِ النارُ: آگ کے بھڑکنے کی آواز سنائی دینا۔ و۔ الرجلُ: لمبا سانس

لینا۔ الحمارُ گدھے کا ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگنا۔ الزفرُ جمع ازفار بھاری بوجھ۔ الزفرۃ جمع زفرات لمبا سانس، گدھے کا ڈھینچو، ڈھینچو ۔ و ۔ والزُفرۃ لمبا سانس، گرم سانس۔ الزافرۃ جمع زوافر : کمان۔ الزفیر (مص) گدھے کی پہلی آواز، اسکی آخری آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ المُزفَر والمَزدفَر لمبا سانس، سانس لینے کی جگہ۔

۲- زفَر ۔ زفراً و زفیراً تِ الارضُ زمین کی روئیدگی ظاہر ہونا، زمین کا سبزہ اُگنا۔

۳- زفَرَ ۔ زفرًا الماءَ : پانی کھینچنا۔ و۔ الشیءَ چیز کو اٹھانا۔ اِزدَفَر الشیءَ (کو) اٹھانا۔ الزِفر جمع أزفار : مشک، مشکیزہ، مسافر کا سامان۔ الزُفَر : مشکیں اٹھانے کی طاقت رکھنے والا، دریا، لبالب بھری ہوئی ندی، آقا، سخی، بہت بخشش، شیر، بہادر۔ الزفَر وہ چیز جس سے درختوں کو سہارا اور تقویت بہم پہنچائی جائے۔ تھم۔ زَفرۃُ و زُفرۃُ الدابۃِ جانور کا پھولا ہوا پہلو۔ فرسٌ ازفر جمع زُفر : مضبوط پسلیوں والا گھوڑا۔ الزافرۃ جمع زوافر : کندھا اور اس کا گردا گرد، بڑا سردار۔ زافرۃ الرجُل آدمی کے اقارب و اعوان و انصار۔ و۔ البناء عمارت کا تھم۔ الزوافر لونڈیاں جو پانی کی مشکیں بھر کر لاتی ہیں، انگوروں کی بیل کو اٹھانے کے جنگلے کے شہتیر، پسلیاں کہتے ہیں۔ فرسٌ شدید الزوافر : مضبوط پسلیوں والا گھوڑا۔ زوافرُ المجدِ بزرگی کے اسباب اور ستون۔ المزفور من الدوابّ : مضبوط جوڑوں والا جانور۔

۴- تزفّر بزفر کھانا۔ الزفرعند المسیحیین : گوشت اور دودھ وغیرہ کا کھانا اور پینا، اس کی ضد قطاعۃ ہے جس کا معنی ان کھانا پینے کی چیزوں کو استعمال نہ کرنا۔

۵- الزِفر ج ازفار : جماعت گروہ، دستہ فوج۔ الزُفر : دستہ فوج۔ زَفرۃُ و زُفرۃُ الشیءِ چیز کا وسط۔ الزافرۃ جمع زوافر : مصیبت، پر کے علاوہ تیر کا باقی حصہ یا پیکان کی جانب دو ثلث سے کم، گروہ، دستہ فوج۔ الزفیر : مصیبت۔

○ زَفَرَ ۔ زَفرًا و زفیرًا : لمبا سانس لینا، لمبے لمبے سانس لینا، ہانپنا (کی) سانس پھولنا، کراہنا۔ زفرۃ جمع زفرات : آہ، کراہ، زفیر : سانس باہر نکالنا، سانس لینا، کراہنا، کراہیں۔ زفّر ہُ کو چکنائی سے گندا کرنا، بھرنا یا کلونسنا۔ ___ زفَر : چکنائی، گریس، چکنائی دار خوراک۔ زفِر : چکنا، میل سے بھرا ہوا، گندا، بدبودار۔

○ زفزفۃ : سائیں سائیں کرنا، (ہوا کا) سیٹیاں بجانا۔

زفن : ا- زَفَنَ ۔ زَفنًا : ناچنا، زور کا دھکا دینا اور لات مارنا کہتے ہیں۔ دنوت منہ فزفنی میں اس کے نزدیک ہوا تو اس نے مجھے لات ماری۔ الناقۃ الزافنۃ والزَفُون لنگڑی اونٹنی۔ الزفّان ناچنے والا۔ رقاص۔ الازفنہ : حرکت۔ رجلٌ ازفنۃ : حرکت کرنے والا آدمی، متحرک۔

۲- الزِفن (ب) چھت کے اوپر کا چھتر۔

۳- الزیزفون (ن) ایک عناب۔ ناقۃ زیزفونٌ : تیز رفتار اونٹنی۔

زفی : ا- زَفَی ۔ زَفیًا و زَفَیانًا تِ القوسُ کمان کا آواز دینا۔ و۔ تِ الریحُ السحابَ و التراب و نحوھما : ہوا کا بادل اور مٹی وغیرہ کو اڑانا۔ ازفی الشیءَ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ ازفیتُ العروسَ : میں دلہن کو اس کے دولہا کے گھر لے گیا۔ الزافی : ہلکا تیز رفتار۔ الزَفَیان (مص) ہلکا پن، ہلکا۔ ناقۃٌ زفیان : تیز رفتار اونٹنی۔ المزفیّ، المُنزفی والمُترفّی ڈرایا ہوا، خوف زدہ۔

۲- زَفَی ۔ زَفیًا و زَفَیانًا الرجل بنفسہٖ جان دینا۔

زق : ا- زقّ ۔ زقًّا الطائر پرندہ کا بیٹ کرنا۔ و۔ فرخہٗ : پرندہ کا اپنے چونچ سے اپنے چوزے کو چوگا دینا۔ چوزے کو چوگا دینا۔ الزقّ پالتو پرندوں کو جلد موٹا کرنے کے لئے زبردستی خوراک دینا۔ الزقّاقۃ : چوزوں کو چوگا دینے والے کبوتر، چھوٹے بچوں کو پیار کرنے والے۔

۲- زقّ ۔ زقًّا الکبش : مینڈھے کی کھال اتارنا۔ زقّق الکبش : مینڈھے کی کھال اتارنا۔ و۔ الجلدَ : چمڑے کے بال کاٹنا۔ الزِق جمع ازقاق و زِقاق و زُقّان و ازُق : مشک۔ زق الحدّادِ لوہار کی دھونکنی، بھٹی۔ الزُق جمع زِقفۃ : شراب۔ الزقّاق : مشکیں بنانے والا۔ مشک ساز۔

۳- الزُقاق جمع ازِقّۃ و زُقّان : کوچہ گلی، تنگ گلی (مذکر و مونث) الزُقّۃ : و الزُقّق : (ح) پن ڈبی نامی ایک آبی پرندہ۔ جو پکڑنے سے پہلے غوطہ لگا کر دور چلا جاتا ہے۔

۴- زقزق زقزقۃً و زِقزاقًا الطائرُ پرندہ کا بیٹ کرنا۔ آواز دینا۔ چہچہانا۔ و۔ الرجلُ : ہلکی ہنسی ہنسنا مسکرانا۔ و۔ فرخہٗ چوزے کو چوگا دینا۔

۵- زقزق زقزقۃً و زِقزاقًا الصبیَّ بچہ کو کدانا۔ و۔ الرجلُ ہلکا ہونا۔ الزِقزاق آہستہ چلنے والا۔ ایک قسم کی چیونٹی۔

○ زقّ ۔ زقًّا ہٗ پرندے کا اپنے چوزے کو چوگا دینا۔ زِقّ جمع ازقاق و زِقاق و زِقاقۃ چمڑے کی ... مونث جمع ازقّۃ گلی، کوچہ، آبنائے، ہلکی گزرگاہ۔ زقزق زقزقۃً چہچہانا، چوں چوں، چیں چیں کرنا۔ ___ ہٗ : (چوزے) کو چوگا دینا۔ ___ ہٗ (بچہ کو) اچھالنا۔ اپنے بازوؤں میں) زقزاق : سمندری کوا۔ الزقازیق شمالی مصر کا ایک شہر۔

زقب : ا- زقب ۔ زُقبًا الجرذُ فی جحرہ چوہے کا اپنے بل میں داخل ہونا۔ و۔ ہٗ فی الجحر (کو) بل میں داخل کرنا (لازم و متعدی) اِنزقب الجرذُ فی الجحر چوہے کا بل میں داخل ہونا، گھسنا۔

۲- زقب المُکّاءُ مکا و پرندہ کا آواز کرنا۔ چہچہانا۔

۳- الزقب : تنگ راستہ، نزدیکی کہتے ہیں۔ رمیتہٗ من زقب : میں نے اسکو نزدیک سے تیر مارا۔

زقح : زقح ۔ زقحًا و زُقاحًا القردُ بندر کا چڑ چڑ کرنا۔

زقع : زقع ۔ زَقعًا و زُقاعًا الدیکُ مرغے کا بانگ دینا، ککڑوں کوں کرنا۔ الحمارُ گدھے کا زور سے گوز کرنا۔

زقف : ا- زقف ۔ زقفًا الشیءَ : کسی چیز کو یک بیک چھین لینا یا اچک لینا۔ تزقّف و ازدقف الشیءَ : کسی چیز کو یک بیک چھین لینا یا اچک لینا۔ تزقّف الکرۃَ بالصولجان (اس نے ہاکی سے گیند چھین لی ۔ و۔ اللقمۃَ : لقمہ نگلنا۔ الزقفۃ : نگلی ہوئی چیز، چھینی ہوئی چیز۔

زقّف : تالی بجانا۔ (عام بول چال میں)

زقل : زوقل العمامۃ : پگڑی کے دونوں سرے اپنے سر کے دونوں جانب سے ڈھیلے کرنا، لٹکانا۔ ذواقیلُ العمامۃ : پگڑی کے نیچے سے نکلے ہوئے بال۔

○ زُقلۃ و زُقلیۃ : چھوٹا ڈنڈا، سپاہی کا ڈنڈا، عصائے منصبی۔ زقیلۃ جمع زقائل : تنگ سڑک، پگڈنڈی۔

زقم : زقم ۔ زقمًا و ازدقمہٗ : کو نگلنا۔ زقّمہٗ : (کو) تھوہڑ کھلانا۔ ازقمہ الشیءَ کو کوئی چیز نگلوانا۔ تزقّم لقمہ لینا، نگلنا، تھوہڑ کھانا۔ اللبنَ : بہت دودھ پی لینا۔ الزقمۃ : طاعون، ایک دفعہ کا نگلنا۔ الزقّوم : مہلک خوراک۔

○ اِزدقم ہٗ (کھانا) نگلنا۔ زقوم : نہایت کڑوے پھل کا درخت جو دوزخیوں کو کھلایا جاتا ہے۔

زقن : زقن ۔ زقنًا الحملَ بوجھ اٹھانا۔ ازقنہٗ بوجھ اٹھانے میں کسی کی مدد کرنا۔

زقا : ا- زقا ۔ زُقوًا و زُقاءً و زُقیًا و زقیًّا و زُقُوًّا و زقی ۔ زقیًا الطائرُ : پرندہ کا چہچہانا۔ زاقٍ جمع زواقٍ و زاقیۃ جمع زواقٍ : چہچہانے والا پرندہ۔ ضرب المثل ہے۔ ھو اثقل من الزواقی وہ مرغوں سے بھی

زیادہ وزنی ہے۔ لوگ رات کو گپ شپ کے لئے اکٹھے ہوتے اور اس میں اتنے مستغرق ہو جاتے کہ جب مرغے بانگیں دینے لگتے تو انہیں پتہ چلتا کہ رات ختم ہوگئی ہے تو وہ گپ شپ بند کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ ـــ الصبیُ: بچے کا زور زور سے رونا۔ ازْقی ہٗ: کو رُلانا۔ الزَقِیَۃ: چیخ۔ الزُقْیَۃ: درہموں وغیرہ کا ڈھیر۔

○ زُقاء: مرغ کی بانگ۔

زك: ا۔ زكَّ ـِ زكّاً و زكَكاً و زكِيكاً الشیخُ: بوڑھے شخص کا دوڑنا اور کمزوری کی وجہ سے قریب قریب قدم رکھنا۔ و۔ زكَّ الغلامُ: لڑکے کا دوڑنا۔ زُكَّ الرجلُ: آدمی کا بوڑھا ہونا، بیاری سے کمزور ہونا۔ الزُكّ (ح): فاختہ کا چوزہ۔

۲۔ زكَّ ـِ زكّاً القربۃَ: مشک کو بھرنا۔ و۔ ہٗ الماءَ: کو سیراب کرنا۔ اِزْدكَّ الزرعُ: کھیتی کا سیراب ہونا۔

۳۔ زكَّ ـِ زكّاً علی فلانٍ: پر غضبناک ہونا۔ تزكّك: ہتھیار اٹھانا۔ الزُكَّۃ: غم و غصہ۔ الزِكَّۃ: ہتھیار۔

۴۔ زكَّ ـِ زكّاً بسلحہ: بیٹ کرنا۔

۵۔ ازكَّ علی الامر: پر اصرار کرنا۔ ـ برأیہ: رائے میں اکیلا ہونا۔

۶۔ زكْزكَ الشیخُ: بوڑھے کا کمزوری کی وجہ سے قریب قریب قدم رکھ کر چلنا۔ و۔ ہ زكْزكۃً فتزكْزكَ: (کو) گدگدانا اور اس کا اس سے متاثر ہونا (عام بول چال میں) تزكْزكَ: اپنے ہتھیار اٹھانا۔

زکا: ا۔ زكَأَ ـَ زكْأً ہٗ الدراھم: کو نقد درہم دینا یا جلدی نقد درہم دینا۔ و۔ ہٗ حقّہٗ: کسی کا حق ادا کرنا۔ اِزْدكَأَ حقَّہٗ منہ: سے اپنا حق لینا۔ رجلٌ زكأٌ و زكأۃٌ و زُكاء النقد: جلد نقد روپے ادا کرنے والا۔

۲۔ زكَاءَ ـَ زكْأً الیہ: کی پناہ لینا، کے پاس پناہ لینا۔ المزْكأ: پناہ گاہ۔

۳۔ زكأَ ـَ زكْأً ہٗ: کو مارنا۔

زکب: زكَبَ ـُ زكْباً و زُكوباً الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ و۔ تِ المرأۃُ: عورت کا ایک ہی درد میں بچہ جن دینا۔ اِنزكَبَ البحرُ: سمندر کے پانی کا پست زمین یا گڑھے میں داخل ہونا۔ الزُكْبۃ: لڑکا۔

○ زكَبَ ـُ زُكوباً ہ: کو بھرنا۔ زكِیبۃ جمع زكائب: بوری، ٹاٹ کی بوری۔

زکت: زكَتَ ـُ زكْتاً و زكّت و ازكَتَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

زکر: زكَّرَ و تزكّرَ الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ الزُكْرۃ جمع زُكَر: چمڑے کا برتن شراب وغیرہ رکھنے کے لئے۔

○ زُكْرۃ جمع ذُكَر: شراب کا مشکیزہ۔ الغوزہ سے مشابہ ایک آلۂ موسیقی۔

زکم: ا۔ زكَمَ ـُ زكْماً و ازكَمَ القربۃَ: مشک کو بھرنا۔ و۔ ہٗ: کو زکام میں مبتلا کرنا۔ زُكِمَ: کو زکام ہونا۔ مزْكوم: زکام میں مبتلا۔ الزُكام: (طب) زکام، نزلہ۔ الزُكْمۃ: زکام، نزلہ۔

۲۔ زكَمَ ـُ زكْماً و ازكَمَتْ بہ امُّہٗ: کو اس کی ماں کا جننا۔ الزُكْمۃ: اولاد کہتے ہیں۔ لفلان زُكْمۃُ سوءٍ: یعنی فلاں شخص کی اولاد بری ہے۔ الزُكْمۃ: ماں باپ کا آخری بچہ۔ کہا جاتا ہے۔ ھو زُكْمۃُ وُلْدِ ابیہ: یعنی وہ اپنے باپ کی آخری اولاد ہے۔

۳۔ الزُكْمۃ: بھاری اجڈ۔

زکن: ا۔ زكِنَ ـَ زكَناً الامرَ: کسی بات کو سمجھ لینا، تاڑ جانا، گمان کرنا کہتے ہیں۔ زكِنْتُ انہ رجلُ سوءٍ: یعنی مجھے علم ہوا، یا میرے علم میں آیا کہ وہ برا آدمی ہے۔ و۔ منہ عداوۃً: کی عداوت کا پتہ لگا لینا۔ زكّنَ: گمان کرنا۔ ـ علیہ: کو مشتبہ کرنا، دھوکہ دینا۔ ازكَنَ ہٗ الامرَ: کو معاملہ سے آگاہ کرنا اور سمجھانا۔ و۔ الشیءَ: کو صحیح گمان کرنا۔ رجلٌ زُكَنٌ: اچھی یاد داشت والا۔ رجلٌ زكِنٌ: زیرک، سمجھدار آدمی۔ الزَكانۃ و الزَكانِیَۃ: گمان کی درستی اور سچائی۔

۲۔ زكَنَ ـُ زُكوناً الیہ: کی پناہ لینا سے مل جل جانا۔ زاكَنَ ہٗ: ایک دوسرے کے قریب ہونا کہتے ہیں۔ ھذا جیش یزاكن الالفین: یہ لشکر دو ہزار کے قریب ہے۔ و۔ ہٗ: کے قریب ہونا، کا ہم نشین ہونا۔

○ زكانۃ: حاصل کرنے یا دیکھنے کی صلاحیت، وجدان۔

زکا: ا۔ زكَا ـُ زكاءً و زكیَ ـَ زكِیَ الزرعُ: فصل کا بڑھنا، پھلنا پھولنا۔ و۔ تِ الارضُ: زمین کا عمدہ ہونا۔ و۔ الرجلُ: آدمی کا خوشحال زندگی گزارنا۔ زكّی: پھلنا پھولنا اور بڑھنا۔ و۔ ہٗ اللّٰہُ: کو اللہ کا بڑھانا۔ ازكَی الزرعُ: فصل کا بڑھنا۔ و۔ ہٗ اللّٰہ: کو اللہ کا بڑھانا۔ تزكّی الشیءُ: چیز کا بڑھنا اور زیادہ ہونا۔ فروغ حاصل کرنا۔ الزاکی (فا) جمع زُكاۃ: اچھی نشو و نما پانے والا۔ الزكِیّ جمع ازكِیاء م زكِیّۃ: عمدہ نشو و نما پانے والا کہتے ہیں۔ ارضٌ زكِیّۃ: عمدہ اور زرخیز زمین۔

۲۔ زكَا ـُ زكاءً و زُكوّاً و زكِیَ ـَ زكِیَ الرجلُ: نیک و صالح ہونا، زکی یعنی زیرک اور سمجھدار ہونا کہا جاتا ہے۔ ھذا لا یزكو بك: یعنی یہ تمہارے لائق نہیں۔ زكّی ہٗ اللّٰہ: اللہ کا کسی کو پاک کرنا، ٹھیک کرنا۔ زکاۃ: لینا۔ ـ نفسہٗ: اپنی تعریف کرنا۔ ـ مالہٗ: مال کی زکاۃ دینا۔ تزكّی: صدقہ دینا، زیرک ہونا۔ الزکاۃ جمع زكاً و زكَوات: زکوٰۃ، صدقہ، پاکیزگی، چیز کا عمدہ حصہ۔ الزكِیّ جمع ازكِیاء م زكِیّۃ: صالح، زیادہ بھلائی اور فضیلت والا۔ گناہوں سے پاک۔ التزكیۃ: زكّی کا مصدر، زکوٰۃ۔ تزكیۃ الشھود: گواہوں کو معتبر جاننا اور انہیں سمجھدار قرار دینا۔

۳۔ زكّی: پیاسا ہونا۔

۴۔ الزكا: جفت عدد، کہا جاتا ہے۔ أخساً ھذا ام زكاً: یہ طاق ہے یا جفت؟

○ زکا ـُ زكاءً: پھلنا پھولنا، پنپنا، بڑھنا، زیادہ ہونا، دلی طور پر پاکیزہ ہونا، عادل ہونا، اچھا یا نیک اور خدا ترس ہونا۔ ـــ ب: کے لائق ہونا، کے لئے موزوں ہونا، مناسب ہونا۔ زكِیَ ـَ: بڑھنا، زیادہ ہونا۔ زكّی ہ: کو زیادہ کرنا، بڑھانا، میں اضافہ کرنا، کو پاک کرنا، سدھارنا۔ ـــ ہ: کی برأت کرنا۔ کا جواز پیش کرنا، کا ذمے دار ہونا، کی دیانت کی گواہی دینا، کو دیانت قرار دینا، کے پہلے آبرومندانہ کردار کی تصدیق کرنا۔ ـ ہ: کی سچائی، معقولیت، یا اعتبار کی تصدیق، شہادت دینا۔ ـ ہ: کی تعریف کرنا۔ ـ: مشورہ دینا۔ ازكَی ہ: کو بڑھانا، اگانا۔ تزكّی: پاکیزہ ہونا، سدھرنا، نفس مارنا۔ زكِی جمع أزكِیا: پاک، پارسا، نیک، بے گناہ، زكاء: نشو و نما، افزائش، (اخلاقی) پاکیزگی، دیانت، دیانت داری، نیکی، انصاف۔ زكاۃ: (زکوٰۃ) جمع زكاً و زكَوات: پاکیزگی، انصاف، دیانت، دیانت داری، جواز، برأت، خیرات دینا، جرات، سخاوت، انسانی ہمدردی۔ خیراتی ٹیکس۔ زكاۃ الفطر: ماہ رمضان کے آخر میں کھانے کی چیزوں کا لازمی عطیہ۔ ازكی: زیادہ پاکیزہ، زیادہ موزوں، زیادہ مناسب، بہتر۔ تزكِیۃ: پاک کرنا، سدھانا، اپنی دیانت اور یقین کا باقاعدہ اعلان، کسی گواہ کی دیانت دارانہ کردار کی تصدیق۔

زلّ: ا۔ زلَّ ـِ زلّاً و زلَلاً و زُلولاً و زلِیلاً و مَزِلّۃً و زِلِّیلی و زِلِّیلاء: پھسلنا، گرنا۔ و۔ عن الحق والصواب: حق و صواب سے پھرنا، منحرف ہونا۔ و۔ عمرہٗ: زندگی کا گزر جانا۔ و۔ ـِ زلیلاً و زُلولاً: تیزی سے گزر جانا۔ و ـــ ـَ زلَلاً: کمزور اور ہلکے سرین والا ہونا۔ ازلّ م زلّاء جمع زُلّ: کمزور اور ہلکے سرین والا۔ ازلَّ ہٗ: کو پھسلانا، سے لغزش کرنا۔ اِستزلَّ ہٗ: کو پھسلانا، سے لغزش کرانا۔ المزلّ: پھسلنے کی جگہ (مذکر و مونث)

کہتے ہیں۔ مکانٌ زلٌ و ارضٌ زلٌّ : پھسلنے والی جگہ اور پھسلنے والی زمین۔ المَزَلّ: (مص) پھسلنے کی جگہ (مذکر و مونث) ، گناہوں کا ارتکاب کہا جاتا ہے۔ استغفر اللّٰہ من زللی: یعنی میں اپنے گناہوں کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا خواہاں ہوں۔ الزلّۃ جمع زلّات: گناہ، خطا، ایک دفعہ گرنا۔ زلّ کا اسم مرۃ۔ الزلّۃ واحد زِلّ :صاف پتھر۔ ماءٌ زلُولٌ و زُلازِل: شیریں اور صاف پانی جو حلق سے تیزی سے گزر جائے۔ الزُلال : بہت پھسلنے والا۔ ماءٌ زُلال: دیکھو۔ ماءٌ زلول الزلیل :ہلکی رفتار۔ ماءٌ زلیل: دیکھو ماءٌ زبولی الازلّ م زلّاء جمع زُلّ: ہلکے سرین والا۔ تیز رفتار۔ قوس زلّاء: کمان جس سے تیر بڑی تیزی سے نکلے۔ المَزَلّۃ والمَزِلّۃ جمع مَزالّ: پھسلنے کی جگہ۔

۲۔ ازلّ ہٗ الی القوم :کو قوم کے روبرو پیش کرنا کہا جاتا ہے۔ ازلّ الیہ نعمۃً: پر احسان کرنا اور اسے نعمت عطا کرنا۔ ــــ ازلّ الیہ من حقہ شیئاً : یعنی اس نے اسے اپنے حق سے کوئی چیز عطا کی۔ الزُلّۃ: احسان۔ الزَلّۃ جمع زلّات: ولیمہ، طعام ولیمہ، خوراک جو دوست یا رشتہ دار کے دستر خوان سے اٹھائی جائے۔ المُزِلّ: بہت نیکی یا سلوک کرنے والا۔

۳۔ زلّ ـِ زُلولاً الدرھمُ :درہم کا کم وزن ہونا، صفت زال جمع زوالّ۔ کہا جاتا ہے۔ دراھمُ زوالٌ: کم وزن درہم۔ الزَلَل : کہا جاتا ہے۔ فی میزانہ زَلَلٌ: اس کے ترازو میں کمی ہے۔

۴۔ الزُلّۃ: بوسہ۔ الزلیل (ط): فالودہ۔

۵۔ زلزل زلزلۃً و زلزالاً و زَلزالاً و زُلزالاً اللّٰہُ الارضَ :اللہ کا زمین کو ہلانا، بھونچال لانا۔ و۔ ہٗ: کو خوف زدہ کرنا، ڈرانا۔ تزلزلتِ الارض: زمین کا کانپنا، ہلنا، زمین میں زلزلہ آنا۔ و۔ ت نفسُہٗ :جان کا موت کے وقت سینہ میں بے کل ہونا یا بے چین ہونا۔ الزلزلۃ: (مص) جمع زلازِل: بھونچال، زلزلہ۔ الزلازِل: مصائب، وخطرات۔ الزُلزُول: لڑائی جھگڑا۔

۶۔ زلزل زلزلۃً و زلزالاً و زَلزالاً و زُلزالاً الابلَ: اونٹوں کو سختی سے ہانکنا۔ الزُلزُل: ماہر نقارچی۔ غلامٌ زُلزُلٌ: سبک جوان۔ الزُلزُول: خوش طبع و سبک، سبکی۔

۷۔ الزَلزِل : سامان خانہ، اسباب، فرنیچر۔

○ زلّ ـِ زلّاً و زلّ ـَ زَلَلاً: پھسل پڑنا، غلطی کرنا۔ ــ عن: کو متاثر کرنے میں ناکام رہنا (برائی وغیرہ کا) ازلّ ہٗ: کو پھسلانا، کے ٹھوکر کھانے کا باعث بننا۔ زلّ: زکل کی ایک قسم۔ زلّۃ: پھسلنا، رپٹنا، لغزش، فروگزاشت۔ زلّۃ لسان :زبان کی لغزش۔ زلل: پھسلنا۔ رپٹنا، لغزش، غلطی، فروگذاشت۔ زُلال: ٹھنڈا پانی۔ زُلالُ البیض: انڈے کی سفیدی۔ زُلالی: انڈے کی سفیدی کا۔ زُلالیات :پروٹین، لحمیات۔ مواد زلالیۃ: پروٹین، لحمیات۔

زلأ: اِزلأم :دیکھو زلم۔

زلب: زلبَ ـَ زلباً بہ :کسی کے ساتھ چمٹنا اور جدا نہ ہونا۔ الزُلبۃ: لقمہ۔ الزلابیۃ: جلیبی۔

زلج: ا۔ زلجَ ـِ زلجاً و زلیجاً و زلجاناً :تیزی سے چلنا۔ و ــ زلجاً الباب: دروازہ بند کر کے چٹخنی لگانا۔ و۔ زلجاناً فلاناً: کے آگے ہونا۔ زلِجَ ـَ زُلوجاً : پھسلنا۔ و۔ الکلام من فیہ: بات کا منہ سے نکل جانا۔ و۔ الماء عن الحنجرۃ: پانی کا حلق کی نالی سے پیٹ میں اتر جانا۔ زلّجَ الکلام: بات کا لوگوں میں پھیلانا، افشا کرنا۔ ـ عیشۃ: تھوڑی سی روزی پر زندگی گزارنا۔ ازلجَ البابَ :دروازہ کو چٹخنی لگا کر بند کرنا۔ تزلّجَ: پھسلنا۔ و۔ الشیٔ: چیز کا پھسلنا۔ کہا جاتا ہے۔ تزلّجَ السھمُ عن القوس :یعنی تیر کمان سے پھسل کر نکل گیا۔ و۔ تزلّج علی الجلید وغیرہ: برف وغیرہ پر پھسلنا۔ سکیٹنگ کرنا۔ و۔ النبیذَ: نبیذ پینے پر اصرار کرنا۔ مکانٌ زلْجٌ و زلَجٌ و زلیجٌ: پھسلنی جگہ۔ الزالِجُ (فا) :مصائب سے نجات پانے والا۔ بلا نوش۔ سھمٌ زالِجٌ : زمین سے رگڑ کھا کر جانے والا تیر۔ الزلوج: تیز رو۔ سھمٌ زلوجٌ :کمان سے پھسلنے والا تیر۔ قِدحٌ زلوجٌ :ہاتھ سے پھسل جانے والا پیالہ۔ عقبۃٌ زلوجٌ: دور اور لمبی گھاٹی۔ الزَلَج: چکنی چٹانیں۔ ناقۃ زلجی و زلیجۃ: تیز رفتار اونٹنی۔ الزِلاج والمِزلاج: چٹخنی۔ زلّاجۃ: برفانی کھڑاؤں (Skate) المزلج جمع مزالج: کفشی پہیے Skate۔

۲۔ المُزلّج : تھوڑا، قلیل، بخیل، کنجوس، قوم میں اجنبی شخص، ہر چیز کا ردی حصہ، بے مروت۔

○ زلَجَ ــ زُلوجاً و زلِجَ ـَ: پھسلنا، پھسلتے چلے جانا۔ تزلّجَ: پھسلنا، پھسلتے چلے جانا۔ علی الثلج: برف پر برفانی کھڑاؤں سے پھسلنا۔ سکیٹنگ کرنا۔ اِنزلجَ بمعنی تزلّج۔ زلُج: پھسلنی، رپٹنی۔ زلیج: پھسلنی، رپٹنی۔ مِزلَج جمع مزالج: سکیٹ، برفانی کھڑاؤں۔ مِزلاج جمع مزالیج: چٹخنی، کھٹکا۔ زُلیج و زُلیجی: زیباکشی [illegible]

زلح: ا۔ زلحَ ـَ زلحاً و تزلّحَ الشیٔ: کو چکھنا۔ الزَلح: باطل، کہتے ہیں۔ امرٌ زلحٌ: باطل بات۔

۲۔ تزلحبَ عنہُ: سے پھسلنا۔

۳۔ زلحفَ ہٗ فتزلحفَ و ازلحفَّ: کو علیحدہ کرنا اور اس کا علیحدہ ہو جانا۔ الزُلحف: (ح) کچھوا (سُلحفاۃ کی بگڑی ہوئی شکل)

زلخ: ا۔ زلخَ ـَ زلخاناً و زلخاناً الرجلُ: چلنے میں آگے بڑھنا۔ و۔ ت رِجلُہٗ: کے پاؤں پھسلنا۔ زلّخ ہٗ: کو ملائم کرنا، چکنا کرنا۔ ازلخَ البابَ: دروازہ کو چٹخنی لگا کر بند کرنا۔ تزلّخ: پھسلنا۔ مکانٌ زلِخٌ و زلْخٌ: پھسلنی جگہ۔ الزلوخ: تیز رو۔ بئرٌ زلوخٌ: پھسلنا کنواں۔ الزُلخۃ: وہ جگہ جہاں سے بچے پھسلتے ہیں۔ المِزلاخ: چٹخنی۔

۲۔ زلخَ ـُ زلخاً فلاناً بالرمح: کو نیزہ بھونکنا۔ و۔ رأسَہٗ: کا سر زخمی کرنا۔

۳۔ زلِخَ ـَ زلخاً: فربہ ہونا۔

زلز: زلزَ ـَ زلزاً: بے قرار ہونا۔ الزلز والزلِز : خانگی اسباب، فرنیچر، آنے کا راستہ۔

○ زلزلَ ہ/ ہ: کو زور زور سے ہلانا، ہلا دینا، جھنجھوڑ دینا، لرزانا۔ زُلزِلَ: تھرتھرانا، ٹھوکر کھانا۔ تزلزلَ: زمین میں بھونچال آنا، زلزلہ آنا۔ زلزلۃ جمع زلازل: بھونچال، زلزلہ۔ زلزال و زِلزال: سخت صدمہ، صدمہ، ہل چل، کھلبلی، بھونچال، زلزلہ۔

○ زلطَ ـُ زلطاً ہ: کو نگلنا، ہڑپ کرنا۔ زلّط ہ: کے کپڑے اتارنا۔ زُلط: برہنگی، عریانی، ننگا ہونا۔ زلط واحد زلطۃ: بجری، کنکر، سنگریزے، سڑک کے لئے کوٹے ہوئے پتھر۔

زلع: ا۔ زلعَ ـَ زلعاً الشیٔ: کو دھوکے سے چھین لینا۔ و۔ الشجرۃَ: درخت کاٹنا۔ و۔ الماءَ من البئر: کنویں سے پانی نکالنا۔ آپ کہتے ہیں۔ زلعتُ لہ من مالی زلعۃً: میں نے اسے اپنے مال میں سے ایک حصہ دیا۔ ازلعَ ہٗ فی الشیٔ: کو کسی چیز کا لالچ دلانا۔ تزلّع ریشُہٗ: کے پروں کا جھڑنا۔ ازدلعَ الشیٔ: کو دھوکے سے چھین لینا۔ ــ حقّہ: کا حق کاٹ لینا۔

۲۔ زلعَ ـَ زلعاً رأسَہٗ: کا سر پھاڑ ڈالنا۔ و۔ رِجلَہٗ: پاؤں جلانا۔ زلِعَ ـَ زلعاً و زُلوعاً و تزلّع ت قدمُہٗ : پاؤں کا اوپر سے پھٹنا۔ و۔ ت کفُّہٗ: ہاتھ کا اوپر سے پھٹنا۔ الزُولَع: پھٹی ہوئی ایڑیوں والا۔ المُزلّع: پھٹے ہوئے پاؤں والا۔

۳۔ زلعَ ـُ زُلوعاتِ الشمسُ: سورج کا طلوع ہونا،

نکلنا۔ و۔ ت النارُ: آگ کا بلند ہونا۔

۴۔ زَلِعَ - زَلَعاً و زُلُوعاً و تزلّع الجرحُ: زخم کا بگڑ جانا، خراب ہونا۔ الزلعة: خراب زخم۔

۵۔ الزَيْلَع: چھوٹی کوڑیوں کی ایک قسم۔

○ زَلْعَة جمع زِلَع: ایک قسم کا لمبا مٹی کا مرتبان۔

○ زَلْعُوم جمع زَلاعِيم: گلا، حلقوم۔

زلغ: ا۔ زَلَغَ - زُلُوغاً النجمُ: ستارہ کا نکلنا۔ و۔ النارُ: آگ کا بلند ہونا۔

۲۔ تزلّغت رِجْلُهُ: کا پاؤں پھٹنا۔ (تزلعت کہنا افضل ہے)

۳۔ اِزْلَغَبَّ الفرخُ: چوزے کے پر نکل آنا۔ و۔ الشعرُ: مونڈنے کے بعد بال پھر اُگ آنا۔

زلف: ا۔ زَلَفَ - زَلْفاً و زَلَفاً و زَلِيفاً: آگے ہونا اور قریب ہونا۔ و۔ زَلَّفَ الشیءَ: کو آگے کرنا پیش کرنا۔ و۔ في الكلام: بات میں اضافہ کرنا۔ أَزْلَفَ هُ: کو قریب کرنا۔ ۔ الاشیاءَ: کو اکٹھا کرنا۔ و۔ الدليلُ القومَ: رہبر کا قوم کو آگے بڑھنے پر ابھارنا اور مرحلہ وار بے قرار کرنا۔ تَزَلَّفَ و اِزْدَلَفَ: آگے ہونا قریب ہونا۔ الزُلْف و الزَلَف و الزُلْفَى: نزدیکی، درجہ، مرتبہ، منزلت۔ الزُلْفَة جمع زُلَف و زُلُفَات و زُلَفَات و زُلْفَات: درجہ، منزلت، نزدیکی، رات کا ایک حصہ۔ الزُلَف: وہ گھڑیاں جن میں دن اور رات آپس میں ملتے ہیں۔ رات اور دن ملنے کے اوقات۔ العقبة الزَلُوف: دور کی گھاٹی۔ المَزْلَفَة جمع مَزَالِف: گاؤں جو کشت زار اور بیابان کے درمیان ہو۔ المَزَالِف: مرحلے۔

۲۔ الزلف: باغ۔ الزُلْفَة جمع زُلَف و زُلُفات و زُلَفات و زُلْفات: بڑا پیالہ۔ الزَلَفَة جمع زَلَف: بھرا ہوا تالاب یا حوض، بڑا پیالہ، کپڑے دھونے کا طشت، سخت یا جھاڑو دی ہوئی زمین، چکنا پتھر، باغ۔ (ح) سیپی۔

○ زَلَفَ - زَلْفاً و زُلُفاً و زَلِيفاً إلى: کسی شخص یا چیز کے پاس جانا، کی طرف بڑھنا، قریب ہونا۔ زَلَّفَ ہ في: کے بارے میں خبر وغیرہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ تَزَلَّفَ إلى: کی خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا۔ تزلّف ل بھی اسی معنی میں ہے۔ زَلَف: غلامانہ خوشامد یا چاپلوسی، کاسہ لیسی، جوتیاں چاٹنا۔ زُلْفَة و زُلْفَى: غلامانہ خوشامد یا چاپلوسی، کاسہ لیسی، جوتیاں چاٹنا۔ مُتَزَلِّف: خوشامدی، چاپلوسی، ٹوڈی، جوتیاں چاٹنے والا، کاسہ لیس۔

زلق: زَلَقَ - زَلْقاً ہ: کو پھسلانا۔ و۔ راسَهُ: کا سر مونڈنا۔ و۔ هُ عن مكانه: کو جگہ سے دور کرنا اور ہٹانا۔ و۔ هُ

وزَلِقَ - زَلَقاً: ت القدمُ: پاؤں پھسلنا، جما نہ رہنا۔ و۔ بمكانه: کسی جگہ سے اکتا کر ہٹ جانا۔ زَلَّقَ هُ: کو پھسلانا۔ و۔ الموضعَ: جگہ کو پھسلنی بنانا۔ و۔ راسَهُ: کا سر مونڈنا۔ و۔ بدنهُ: جسم کو تیل مل کر چکنا کرنا۔ ۔ هُ ببصره: پر تیز نظر ڈالنا، کو غور سے دیکھنا۔ و۔ عن مكانه: کو جگہ سے دور کرنا اور ہٹانا۔ أَزْلَقَ هُ: کو پھسلانا۔ و۔ راسَهُ: کا سر مونڈنا۔ و۔ ت الفرسُ: گھوڑی کا وقت سے پہلے بچہ گرانا۔ و۔ هُ ببصره: پر تیز غصہ کی نظر ڈالنا، کو غور سے دیکھنا۔ عن مكانه: کو جگہ سے دور کرنا اور ہٹانا۔ اَزْلَقَ هُ: کو پھسلانا ۔ راسَهُ: سر مونڈنا ۔ ت الفرسُ: گھوڑی کا وقت سے پہلے بچہ گرانا۔ ۔ هُ عن مكانه: کو کسی جگہ سے ہٹانا، دور کرنا۔ ۔ هُ ببصره: کی طرف غصہ سے دیکھنا۔ کہا جاتا ہے۔ انهم يزلقونك بابصارهم: یعنی وہ تیری طرف اس طرح دیکھتے ہیں، جیسے تیری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تَزَلَّقَ: ایسا سنورنا کہ چہرے میں چمک دمک نظر آئے۔ الزَلْق و الزَلَّاقة: پھسلنی جگہ جس پر پاؤں نہ ٹکے۔ الزَلَق: پھسلنی جگہ۔ اَرْضٌ زَلَقٌ: ہموار زمین۔ الزَلِق: پھسلن کی جگہ، جلد غصہ میں آنے والا ۔ الزَلَقَة: ہموار چٹان، چکنی صاف چٹان، آئینہ۔ ناقةٌ زَلُوق: تیز رو اونٹنی۔ عقبةٌ زَلُوقٌ: دور دراز گھاٹی۔ الزليق: اسقاط کا بچہ۔ الازلق: نئے اُگے ہوئے بالوں والا۔ الزُلَّيق واحد زُلَّيقَة: ایک قسم کا شفتالو: (ح) ایک قسم کی مچھلی جو ہاتھ سے پھسل جاتی ہے۔ المَزْلَق و المَزْلَقَة: پھسلنے کی جگہ۔ المزلاق: چٹخنی (ح) قبل از وقت بچہ گرانے والی گھوڑی۔

○ زَلِقَ - زَلَقاً و زَلَقَ - زُلُقاً: پھسلنا، رپٹنا، زَلَّقَ ہ: کو پھسلنی بنانا۔ ۔ ہ في: کو میں سرکانا، پھسلانا، رپٹانا۔ اَزْلَقَ ہ: کو پھسلانا۔ اَزْلَقَهُ ببصره: کی طرف سختی یا ناپسندیدگی سے دیکھنا۔ تَزَلَّقَ و اِنْزَلَقَ: پھسلنا، رپٹنا ۔ الی: میں پھسل جانا ۔: پھسلنا، کسی پر پھسلنا، سکیٹنگ کرنا۔ اِنْزَلَقَ عن: کے ہاتھ یا چیز سے پھسل جانا۔ زَلْقَة: پھسلنا، رپٹنا، ایک طرف پھسلنا۔ زَلِق: پھسلنی۔ زَلَّاقة: پھسلاہٹ۔ زَلَّاقة جمع زَلَّاقات: برف گاڑی، برف گاڑی کی ڈھلان، برف گاڑی کا راستہ، سڑک کی نالی۔ مَزْلَقَان: سامان لادنے کی) چڑھائی، موٹر کا راستہ، رسائی کی سڑک۔ مِزْلَق، مِزْلَق: سکیٹ مِزْلَقَان: سکیٹوں کا جوڑا۔ مِزْلَقَة جمع مَزَالِق: برف گاڑی۔

زلم: ا۔ زَلَمَ - زَلْماً: خطا کرنا۔

۲۔ زَلَمَ - زَلْماً الاناءَ: برتن کو بھرنا۔

۳۔ زَلَمَ - زَلْماً الانفَ: ناک کاٹنا۔ اِزْدَلَمَ الشیءَ: کوئی چیز کاٹنا۔ جڑ سے اکھیڑنا۔ الزَلَمَة: بھیڑ بکری کے کان کا کٹا ہوا حصہ جو لٹکتا رہتا ہے۔ الأَزْلَم م زَلْماء: اونٹ بکری وغیرہ جس کے کان کا کچھ حصہ کاٹا گیا ہو، کن کٹا۔ المُزَلَّم: بمعنی الازلم یعنی کن کٹا۔

۴۔ زَلَمَ - زَلْماً العطاءَ: بخشش کم دینا۔ زَلَّمَ العطاءَ: بخشش کم دینا۔ و۔ غذاءَ هُ: کو بری خوراک دینا۔

۵۔ زَلَّمَ هُ: کو نرم کرنا، ہموار کرنا۔ و۔ الرحی: چکی گھمانا اور کناروں سے لینا۔ الزَلَم جمع ازلام: بے پر کا تیر فال لینے کے تیر جن سے جاہلیت میں عرب تقسیم کیا کرتے تھے۔ کھر یا اس کے پیچھے کا حصہ۔ الزُلْمَة الزَلْمَة و الزَلَمَة: شکل اور قد و قامت کہتے ہیں۔ هو العبد زُلْمَةً: وہ غلام کے نقش قدم پر چلتا ہے اور غلام جیسا معلوم دیتا ہے۔ المُزَلَّم: سبک، خوش طبع، پست قد۔ و۔ والمزلم من السهام: عمدہ ساخت کا تیز۔

۶۔ ازلأمَّ ازلئماماً الضحى: چاشت کے وقت کا روشن ہونا۔ و۔ الشیءُ: کا سیدھا کھڑا ہونا۔ و۔ القومُ: قوم کا جلد کوچ کر جانا۔

۷۔ الزَلَم: (ن) ایک پودا جس کا نہ بیج ہوتا ہے نہ پھول اور اس کے زیر زمین تنوں میں چوڑا اور چکنائی والا دانہ ہوتا ہے جسے حب العزیز کہا جاتا ہے۔ الزَلَمَة: مرد پیدل چلنے والا۔ الزَلْماء: (ح) شکرہ کی مادہ، پہاڑی بکری۔ زُلُّومةُ الابريق (عند العامة): عامی زبان میں، جگ کا چھوٹا دہانہ جسکا فصیح البلبل ہے۔

○ زُلُّومَة و زَلُّومَة جمع زَلالِيم: (ہاتھی کا) سونڈ۔

زم: ا۔ زَمَّ - زَمّاً ہ: کو کس کر باندھنا۔ و۔ الجملَ: اونٹوں کو نکیل ڈالنا۔ و۔ النعلَ: جوتے میں تسمہ ڈالنا۔ زَمَّمَ الجمالَ: اونٹوں کو نکیل ڈالنا۔ اَزَمَّ النعلَ: جوتے میں تسمہ ڈالنا۔ اِنْزَمَّ: کس کر بندھنا، بندھنا۔ الزمام جمع أَزِمَّة: جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔ باگ، لگام، نکیل، مہار۔ زمامُ قومهِ: اپنی قوم کا پیشوا، چودھری زمام الامر: وہ چیز جس پر کام کا دارومدار ہو۔ القوا لي بيده زمام الامر: لوگوں نے کام کی باگ اس کے ہاتھ میں دیدی اور اسے مختار کل بنادیا۔ هو علي زمام امره: وہ اپنے کام کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ هو يصرف ازمة الامور: اسے کام سرانجام دینے میں آزادی حاصل ہے۔ زمام النعل: جوتے کا تسمہ۔

۲۔ زَمَّ - زَمّاً البعيرُ بانفه: ناک میں تکلیف کی وجہ سے اونٹ کا سر اٹھائے پرکھنا۔ الرجلُ برأسه: آدمی کا

سر اٹھانا۔ و۔ بانفه: تکبر کرنا۔ و۔ القوم: چلنے میں قوم سے آگے ہونا یا رفتار میں قوم سے آگے بڑھ جانا۔ و۔ الذِئبُ السخلة: بھیڑیے کا بکری کے بچے کو سر اونچا کر کے لے جانا۔ و۔ زُمُومَاتِ نابُ البعير: اونٹ کے دانت پھوٹنا۔ زَامّ مُـزَامَةً: تکبر کرنا۔ زامَمتُ فلانًا: میں نے فلاں کا مقابلہ کیا۔ اِزْدَمَّ: تکبر سے سر اونچا کرنا و۔ الـذئـبُ السـخلةَ: بھیڑیے کا بکری کے بچہ کو سر اونچا کر کے لے جانا۔ الـزُمَّـام: اونچی گھاس۔

۳۔ زَمّ - زَمّـاً القـربةَ: مشک بھرنا۔ و- زُمُومَـاتِ القربةُ: مشک کا بھر جانا۔

زَمّ - زُمِيمًا الزنبورُ: بھڑ کا بھنبھنانا۔

۵۔ رَجُلٌ زامّ جمع زُمَّم: گھبرانے والا آدمی۔ الـزَمَم: کہا جاتا ہے۔ داری من داره زَمَـمٌ: میرا گھر اس کے گھر کے قریب ہے۔ وامرُ القوم زَمَمٌ: قوم کا معاملہ قریب قریب یکساں ہے۔ وجهی زَمَمَ بيته: میرا چہرہ اس کے گھر کے مقابل ہے۔ الازميم: مہینے کے آخر کا چاند۔

۶۔ زَمْزَمَ زَمْزَمَةً الشئُ: دور سے آواز کی گنگناہٹ سنائی دینا۔ و۔ تِ الـنـارُ: آگ کے بھڑکنے کی آواز سنائی دینا۔ و۔ المغنّی: گوبے کا سُر سے گانا۔ گلوکار کا ترنم سے گانا۔ و۔ العُلوجُ: کھاتے وقت کافروں کا عجمی زبان میں بات کرنا اس طرح کہ بات کرتے ہوئے خاموش رہنا زبان اور ہونٹ کا استعمال نہ کرنا مگر اپنی ناک کی جڑ اور حلق میں ایسی آواز چلانا کہ ایک دوسرے کی بات سمجھ جائے۔ و۔ الـكـاسَ: پیالہ میں جو کچھ ہو اسے پی جانا۔ تـزمـزم الجمل: اونٹ کا بڑبڑانا۔ و۔ ت به شفتاه: ہونٹوں کا ہلنا۔ الـزَمْزَمَة: (مص) جمع زَمازِم: بادل کی گرج، آگ کے بھڑکنے کی آواز، شیر کی دھاڑ۔

۷۔ زَمْزَمَهُ: بکھری ہوئی چیز کا جمع کرنا۔ و۔ الشیءَ: کو محفوظ کر لینا، کو بچانا۔

۸۔ مـاءٌ زَمْزم و زمـزَامٌ و زَمْزَمٌ و زمازِمٌ: بہت سا پانی، نمکین اور میٹھے کے درمیان کا پانی۔ زَمْـزَمَ: کعبہ شریف کے قریب ایک کنواں۔ الـزِمْزِمَة جمع زَمازِم وزِمْزِم: اونٹوں اور لوگوں کا ایک گروہ۔ الـزُمْزُوم و الـزِمْزِيم من الابل جمع زَمَازِيم: بہترین اونٹ، عمدہ اونٹ، اونٹوں کا ریوڑ یا گلہ۔

○ زَمّ ـــُ زَمًّا ه: کو موڑنا، باندھنا، کسنا، کس کر لگانا۔ زَمّ بـانـفِهِ: ناک چڑھا ہونا۔ زَمَّمَ ه: اونٹ کو لگام دینا۔ زِمـــام جمع اَزِمَّة: اونٹ کی نکیل۔ لگام، باگ، رسا، روزنامچہ، رجسٹر بہی، میدان، زمین۔ بِزِمَامِهِ: کے زیر ہدایت، کی زیر نگرانی، زِمـام الأمر: اقتدار کی باگیں۔ قبض علی ازمة الامور: طاقت و اقتدار کی لگام اپنے ہاتھ میں لینا، اقتدار کا مالک ہونا، تـولّی زِمام الحكم: اقتدار ہاتھ میں لینا۔

زمت: زَمُتَ - زَمَاتَةً و تزمَّت: معزز اور باوقار ہونا۔ زَمِيتٌ جمع زُمَتاء و زِمِّيت: معزز اور باوقار۔ فلانٌ ازمتُ الناس: فلاں شخص سب سے زیادہ باوقار ہے۔ زَمَتَ - زَمْتًا هُ: کا گلا گھونٹنا۔

○ تزَمّت: متانت، سنجیدگی، متزمت: متین، سنجیدہ، تنگ نظر۔

زمج: ۱۔ زَمَجَ - زَمْجًا القربةَ: مشک بھرنا۔ و۔ عليهم: کی دعوت میں بلا اجازت و دعوت نامہ آ کر کھانا۔ بن بلائے مہمان بننا۔ الـزامـج: کہتے ہیں۔ اخـذَهُ بزامجه: اسے پورے کا پورا لے لیا۔

۲۔ زَمِجَ زَمَجًا: غضبناک ہونا۔ زَمِج: غضبناک۔ المُزْمَئِج: غضبناک۔

۳۔ الزُمَّج جمع زَمامِيج: (ح) سرخ رنگ کا ایک شکاری پرندہ۔ زُمَّجُ الماء: (ح) ایک مچھلی خور آبی پرندہ۔ الزِمِجّی: پرندہ کی دم کی جڑ۔ زِمِجَّة الظليم: شتر مرغ کی چونچ۔

۴۔ زَمْجَرَ زَمْجَرَةً: بہت شور مچانا۔ و۔ تـزَمْجَر الاسـدُ: شیر کا بار بار دھاڑنا۔ اِزْمَـجَرَّ: آواز کرنا۔ الـزَمْجَـرة: (مص) جمع زمـاجـر و زمـاجير: بانسری۔ زَمْجَرة كلّ شیءٍ: ہر چیز کی آواز۔

○ زَمْجَرَ زُجرَةً: جھاڑ جھپاڑ کرنا، طیش میں آنا، گھن گرج میں ہونا۔

زمح: الزُمَّح والزُومَح: کمینہ، پستہ قد، بدشکل، سیاہ فام، بدصورت، شرپسند۔ الزَامِح: پھوڑا۔

زمخ: ۱۔ زَمَخَ - زَمْخًا: تکبر کرنا۔ زامخ جمع زُمَّخ: متکبر۔ عقبه زَمْخ و زَمُوخٌ: دور افتادہ سخت گھاٹی۔

۲۔ زَمْخَـرَ الـنمرُ: چیتے کا غضبناک ہو کر دھاڑنا۔ و۔ الصوتُ: آواز کا تیز ہونا۔ اِزْمَخَرَّ: تیز ہونا، شدید ہونا۔ تزَمْخَرَ النمرَ: چیتے کا غصہ میں دھاڑنا۔

۳۔ زَمْخَـرَ العشـبُ: گھاس کا شگوفہ والا ہونا اور بڑھنا یعنی اونچا ہونا۔ الـزمْخَـر: گنجان و گھنا درخت، بڑی بانسری۔ و۔ الـزَمْـخَرِیّ: کھوکھلی ہڈی۔ رَجُـل زَمْخَرٌ: بلند شان مرد۔ زَمْخَـرة الشباب: بھرپور جوانی۔ و۔ الشجرِ: درخت کا گنجان اور گھنا ہونا۔

زمر: ۱۔ زَمَرَ - زَمْـرًا و زَمِيـرًا: بانسری بجانا۔ و۔ بالحديث: بات پھیلانا۔ [illegible] زِمـار النعام: شتر مرغ کا آواز کرنا۔ زَمَّـر: بانسری بجانا۔ الـزَمْـر (مص) والزَمَر جمع زُمُور: آواز۔ الزِمِرم زَمِرَة: بانسری نواز۔ غنـاءٌ زَمِـر: اچھا راگ۔ الزِمَار (مص): شتر مرغ کی آواز۔ الزِمَارة: بانسری نواز کا پیشہ۔ الـزَمّـار: بانسری نواز۔ الـزَمَّـارة (مو) بانسری۔ غنـاءٌ زَمِير: اچھا راگ۔ المِزمار جمع مزامير (مو): بانسری۔ المَزْمُور والمُزمُور جمع مَزَامِير: گیت۔

۲۔ زَمِـرَ - زَمَـرًا: تھوڑے بالوں والا ہونا، بے مروت ہونا۔ و۔ تِ الشاة: تھوڑی اون والی ہونا (بکری کا) اِسْتـزْمَرَ الرجلُ عند الهوان: ذلت کی وجہ سے منقبض ہونا۔ الزَمِرم زَمِرة: تھوڑے بالوں یا اون والا۔ بے مروت۔ عـطيّة زَمِـرة: تھوڑی بخشش۔ الـزمارة والزُمُورَة: بے مروتی۔ الزمير جمع زِمَار: پستہ قد۔ الزِمِّير و الزَمّير (ح) ایک قسم کی مچھلی۔

۳۔ زَمَرَ - زَمَرانا الظبیُ: ہرن کا ڈر کر بھاگنا۔ اِزْمَارّ: غصہ سے سرخ آنکھوں والا ہونا۔

۴۔ زَمَرَ - زَمْرا القربةَ: مشک بھرنا۔ زَمَّر القِربةَ: مشک بھرنا۔

۵۔ زَمَرَ - زَمْراً فلانًا بفلان: کو اس کے ذریعے اکسانا، بھڑکانا۔ الـزَمّـورو الـزَمير: خوبصورت لڑکا۔ الزَوْم: خوبصورت لڑکا۔

۶۔ الـزَمِر: بہت سخت۔ الزُمْرَة جمع زُمَر: جماعت، گروہ، فوج۔ الزَوْمَر: جماعت، گروہ، ٹولہ۔

۷۔ الزُمُرُّدُ والزُمُرُّذ: واحد زُمُرُدَة: ایک گہرے سبز رنگ کا قیمتی پتھر۔

○ زَمَر ـــِ زَمْرًا و زمراً: بانسری بجانا، زَمَّر: بانسری بجانا، زَمَّر: باجا بجانا۔ زَمْر جمع زمُور: الغوزہ جیسا باجا، موٹر وغیرہ کا ہارن، بھونپو۔ زُمْرَة جمع زُمَر: فوجی دستہ۔ گروہ۔ زُمْرَة دموية: بلڈ گروپ۔ زِمّار: باجا بجانے والا، بانسری بجانے والا، نے نواز۔ زَمّارَة و زُمّارَة جمع زمـامير: الغوزہ جیسا باجا۔ سائرن۔ زَمـارةُ الإنذار: تنبیہی سائرن۔ مِزْمار: الغوزہ جیسا باجا۔ مَزْمُور جمع مَزامير: ترانہ حمد۔

○ اِزْمير: ازمیر، سمرنا، (مغربی ترکیا کا شہر اور بندرگاہ)۔

زمز: زَمْـزَرَ الوعاءَ: برتن کو اچھی طرح بھرنے کے لئے ہلانا۔

زمع: ۱۔ زَمِعَ - زَمَعًا منه: حیران ہونا، خوف سے مبہوت ہونا۔ الـزَمَع (مص) جمع ازماع: کام شروع کرنے پر طاری ہونے والی کپکپی۔ بے قراری۔ الازْمَـع جمع ازامع: ناپسندیدہ امر۔

۲۔ زَمَعَ - زَمْعاً و زَمَعَاناً الارنبُ :خرگوش کا تیز دوڑنا، آہستہ آہستہ چلنا (ضد) اَزْمَعَ تِ الارنبُ خرگوش کا ہلکا پھلکا ہونا اور دوڑنا۔ الزَمَعُ (مص) جمع ازماع رذیل لوگ (کہتے ہیں۔ ھو من الرَعَاع و الزمَعَ وہ رزیل لوگوں میں سے ہے۔) انگلیوں کی زیادتی۔ الزَمَعَۃُ جمع زَمَع و زِمَاع ہرن یا بکری وغیرہ کے پاؤں کے پچھلے رخ میں لٹکے ہوئے بال۔ الزَمْعِیّ خسیس۔ رجُلٌ اَزْمَعَ :زائد انگلیوں والا۔ الزَمِیْع جمع زُمْعَاء و الزَمُوع تیز رو۔

۳۔ زَمَعَ الامرو علیہ وبہ پختہ عزم کے ساتھ کسی بات پر جمار ہنا۔ اَزْمَعَ بمعنی زَمَعَ، الزَمَعُ و الزَمَاع پختہ ارادہ، عزم مصمم۔ الــزُمَّـعُ وہ شخص جو اپنی ضروریات میں چست نہ ہو۔ الزَمِیعُ جمع زُمْعَاء پختہ عزم بہادر، اچھی رائے والا۔ الــزَمِعِیّ جلد غضب میں آجانیوالا۔ الاَزْمَعُ جمع اَزَامِع ہوشیار، دانا، چالاک۔ المُــزْمِعُ کسی امر پر پختہ عزم کرنے والا۔

۴۔ زَمَّعَ الزنبُورُ بھڑ کا بھنبھنانا۔ الزُمَّعُ (ح) ڈنک کے بغیر بھڑ۔

۵۔ اَزْمَعَ الکرمُ انگور کی بیل کا گرہ دار اور کھردرا ہونا۔ الزَمَعُ جمع اَزْمَاع انگور کے خوشے نکلنے کی جگہوں پر گرہیں۔ چھوٹی تنگ نالیاں، کمزور سیلاب۔ الــزُمْعَۃ قطعہ ٹکڑا کہتے ہیں۔ ارض فیھا زُمْعَۃٌ من النبت: زمین میں گھاس کا قطعہ ہے۔ الزَمْعَۃ: چھوٹا ٹیلہ۔

○ زَمَعَ و اَزْمَعَ ہ و علی کا ارادہ کرلینا یا فیصلہ یا تہیہ کرلینا، کا پکا ارادہ کرنا، عزم مصمم کرنا۔ مُزْمِعٌ پکا ارادہ کئے ہوئے، فیصلہ یا تہیہ کئے ہوئے۔ مُزْمَعٌ و مزمع علیہ فیصلہ کیا ہوا قریب، سر پر کھڑا، آنے والا عنقریب ہونے والا مستقبل کا، آئندہ کا۔ المؤتمر المُزْمَعُ عقدُہُ فی کانفرنس جو فلاں تاریخ کو منعقد کی جائے گی۔

زمق: زَمَقَ - زَمْقاً القفل تالا کھولنا۔ و۔ اللحیۃ داڑھی نوچنا۔ اللحیۃ الزمیقۃ و المزمُوقۃ نوچی ہوئی داڑھی۔ الزَمَقَۃ کہتے ہیں۔ ما اغنی عنہ زَمَقَۃً اس نے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔

زملک: ۱- زَمَکَ - زَمْکاً چپ رہنا۔

۲۔ زَمِکَ - زَمَکاً ہُ علی اس نے اس کو بھڑ کا کر جھ پر سخت غضبناک کردیا۔ اِزْمَاکَ سخت غضبناک ہونا۔ الزَمَکُ سخت غصہ۔ الزِمَکَّۃ من الرجال جمع الزمکون جلد غضبناک ہونے والا، احمق۔

۳۔ زَمَکَ - زَمْکاً و زَمَّکَ القربۃَ مشک بھرنا۔

الــزِمَکّ ایک دوسرے میں گھس جانا۔ آپس میں گتھ جانا۔

۴۔ الــزِمِکَّۃ من الرجال جمع الزمکون پستہ قد۔ الزِمِکّی و الزِمِلکّ پرندے کی دم یا اس کی جڑ۔

زمل ۱۔ زَمَلَ - زَمَلاً الاعرج لنگڑے کا ایک طرف جھکے ہوئے دوڑنا۔ ـــ زُمْلاً و زَمَلاً و زَمَلاناً و زَمَلانَـاتِ الدابّۃُ جانور کا خوشی کی وجہ سے لنگڑاتے ہوئے چلنا۔

۲۔ زَمَلَ - زَمْلاً الــرفیقَ :ساتھی کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھانا۔ و۔ الرجل کا پیچھا کرنا، کی پیروی کرنا۔ زَامَلَ الرفیقَ ساتھی کو محمل کے ایک طرف سوار کرنا۔ الزِمْلُ ردیف، سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ الزُمَلُ و الزُمَّلَۃ و الاَزْمَلَۃ بال بچے کہتے ہیں۔ تــرکَ زَمَلاً و زَمَلَۃً و اَزْمَلَۃً اس نے اپنے پیچھے بال بچے چھوڑے۔ الزُمْلَۃ ساتھی لوگ، جماعت۔ الــزَمِیل ردیف، ہم پیشہ۔ الاَزْمَل جمع اَزَامِل و اَزَامِیل تمام شئی کہتے ہیں۔ اخذ الشیءَ بازْمَلِہِ و بازْمَلَتِہ اس نے ساری چیز لے لی۔ لہ عیالٌ اَزْمَلَۃٌ وہ بہت بال بچے دار ہے۔

۳۔ زَمَـلَ ـُ زَمْلاً الشیءَ (کو) اٹھانا۔ اِزْدَمَـلَ الــحِمـلَ بوجھ ایک دفعہ اٹھانا۔ الــزِمْـلُ بوجھ۔ الزَامِلَۃ جمع زوامل: زامل کا مونث۔ اونٹ وغیرہ جو بار برداری کے کام آتا ہے۔ بار برداری کا جانور، لدو جانور۔ الازمیل مضبوط آدمی۔ المُزَمَّلَۃ :پانی ٹھنڈا کرنے کا گھڑا یا مٹکا۔

۴۔ زَمِلَ - زُمُـولاتِ الـقـوسُ کمان کا آواز کرنا۔ الاَزْمَلُ جمع اَزَامِل و اَزَامِیل مخلوط آواز۔ الاَزْمَلَۃ کمان کی آواز۔ الاُزْمُولَۃ و اِزْمَوْلَہ آواز کرنے والا پہاڑی بکرا یا ہرن وغیرہ۔

۵۔ زَمَّلَ الشیءَ کو چھپانا۔ و۔ الشیءَ بثوبہ او فی ثوبہ کو کپڑے میں لپیٹنا۔ تـزَمَّلَ و اِزَّمَّلَ و اِزْدَمَلَ بثوبــہ کپڑے میں لپٹنا۔ الــزَمِیل و الزُمَّل و الزُمَّیل و الزُمَیلَۃ و الزُمَّال و الزُمَّالَۃ و الزُمَّیْل و الزُمَّیلَۃ کمزور بزدل۔ الازمَل :بزدل، کمزور۔ الازمیل کمزور۔ المــزَّمَّـل م المُزَمَّلَۃ و الــمُــتَــزَمِّل کپڑوں میں لپٹا ہوا۔ (کوتاہی کرنے والے سے کنایہ ہے)

۶۔ الازْمِیل موچی کی رانپی، چھینی، ہتھوڑا۔

○ زَامَــلَ ہ کے ساتھ ہونا، کی معیت میں ہونا، کا ساتھی ہونا۔ ـــ ہ فی کا (کسی ارادہ) میں رفیق کار ہونا، ساجھی، شریک کار یا ہم صحبت ہونا۔ ـــ ہ کے ساتھ جانا، کا ہم رکاب یا ہمسفر ہونا، کے ہمراہ ہونا۔ تـزَامَلَ قریبی ساتھی، رفیق یا صاحب ہونا، قریبی ساتھی ہونا۔ زُمْلَۃ لوگوں کی، جماعت۔ زَمِیلٌ جمع زُمَلاء ساتھی، لنگوٹیا، یار غار، شریک کار، ہم صحبت، رفیق، صاحب، رفیق کار، رفیق یا شریک جرم زَمِیلَۃ جمع زَمِیلات زمیل کا مونث زَمَالَۃ رفاقت، رفاقت کاری، ساتھ، دوستی، رکنیت۔ زَمَالَۃ دِراسِیَۃ :وظیفہ، گزارہ الاؤنس۔ اِزْمِیلٌ جمع ازامیل تیشہ، بسولی۔

زمن ۱۔ زَمِنَ - زَمَناً و زُمْنَۃً بیکار ہونا، نکما ہونا۔ اَزْمَنَہُ اللّٰہُ کا کسی کو لنجے پن میں مبتلا کرنا۔ الزمانۃ: آفت، بعض اعضاء کا نہ ہونا، قویٰ کا بیکار ہونا، محبت۔ الزَمِنُ جمع زَمِنُون و الزَمِین جمع زَمْنَی و زَمْنَۃٌ معطل الاعضاء والا، اپاہج کہتے ہیں۔ فلانٌ زَمِنُ الرغبۃِ وہ کمزور خواہش والا ہے۔

۲۔ اَزْمَنَ الشیءُ دیر تک باقی رہنا۔ کہتے ہیں۔ ازمن عنی عطاؤکَ تمہاری عطاء میں دیر ہوگئی۔ و۔ بالمکان کسی جگہ مدت تک اقامت کرنا۔ الزَمَنُ جمع اَزْمَان و اَزْمُن و الزَمان جمع اَزْمِنَۃ و الزَمَنَۃ زمانہ، وقت کم یا زیادہ۔ اَزْمِنَۃُ السنۃِ سال کی فصلیں۔ الربیع (بہار) الصیف (گرمی) الخریف (خزاں) والشتــاء (سردی)۔ زَمَنٌ زَامِنٌ سخت زمانہ۔ عَامَلَہُ مُزَامَنَۃً اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔ مــرضٌ مُزْمِنٌ (فا) پرانا مرض، دیرینہ بیماری۔

○ زَمِنَ - زَمَانَۃً بیمار روگی ہونا، دائم المریض ہونا۔ اَزْمَنَ بِ کسی جگہ طویل قیام کرنا، رہنا۔ ـــ طویل عرصہ رہنا، بیماری کا دائمی ہونا۔ زَمَنٌ جمع اَزْمَان وقت، عرصہ، مدت، دوران، زمناً، مِن زَمان کچھ عرصہ سے علی الزمان ہمیشہ۔ اھل زمانہ کے ہم عصر، کے معاصرین۔ زَمَنِــی زمانی، زمانہ کا، دنیوی، مادی، دنیاوی، ناپائیدار، عارضی، وقتی، لادینی۔ اَلغام زمنیۃ وقتی فتیلہ کے ساتھ بارودی سرنگیں۔ قنبلۃ زمنیۃ ٹائم بم۔ زَمَنِی زمانی، زمانہ کا، دنیوی، دنیاوی، ناپائیدار، لادینی، عارضی وقتی۔ زَمَنِیَۃ و زَمَنِیَّۃ وقت کا عرصہ وقت کی مدت، دیا ہوا وقت۔ مُزْمِن پائیدار، پرانا۔ مُزمِن شدید۔ مزمن (مرض)

○ زَمْھَرَ سرخ ہو جانا، تمتمانا، خون آلود ہو جانا۔ اِزْمَھَرَّ ایضاً زَمْھَرِیر سخت سرد، شدید سردی۔

زمہ ۱۔ زَمِہَ - زَمَھاً الحرُّ گرمی کا تیز ہونا۔ و۔ الرجلُ بالحرِّ کو بہت گرمی لگنا۔ و۔ ـتِ الشمسُ الرجلَ کو بہت دھوپ لگنا۔

۲۔ زَمْھَرَتِ العینُ غصہ سے آنکھ کا سرخ ہونا۔ اِزْمَھَرَّ

الوجهُ: چہرہ کا بگڑنا۔ ـــت العینُ: آنکھ کا غصہ سے سرخ ہونا۔ المُزْمَهِرُ سخت غضبناک۔

۳۔ اِزْمَهَرَّ الیومُ دن کا سخت سرد ہونا۔ المُزْمَهِرِیرُ: سخت ٹھنڈ۔

۴۔ اِزْمَهَرَّتِ الکواکبُ ستاروں کا چمکنا۔ المُزْمَهِرّ: ہنسنے والا۔

۵۔ اِزْمَهَلَّ المطرُ بارش ہونا، برسنا۔ و۔ الثلجُ برف کا پگھل کر بہنا۔

زن:۱۔ زَنَّ - زَنّاً عصبُهُ: کے پٹھے کا خشک ہونا۔ و۔ الرجلُ کے جوڑوں کا ڈھیلا ہونا۔

۲۔ زَنَّ - زَنّاهُ بخیرٍ أو شرٍّ (کو) اچھا یا برا گمان کرنا۔ و۔ ہ بکذا کو سے متہم کرنا۔ اَزَنَّ بخیر أو بشرٍّ کو اچھا یا برا گمان کرنا۔

۳۔ زَنَنَ الرجلُ ہمیشہ ماش کھانا۔ الزِّنّ (ن) ماش، حنطةٌ زِنَّةٌ وہ گیہوں جس کو بارش کے علاوہ پانی دیا گیا ہو، پوت کا گیہوں۔

۴۔ الزَّنَنُ: تنگ۔ ماءٌ زَنَنٌ تھوڑا پانی۔ ظلٌّ زنانٌ تھوڑا سایہ۔ الزَّنِینُ: پیشاب یا پاخانہ روکنے والا۔

○ زَنَّ - زَنّاً بھنبھنانا، بھنکنا۔ زَنٌّ بھنبھناہٹ

زنا:۱۔ زَنَأَ - زَنْأً و زُنُوءاً فی الجبل پہاڑ پر چڑھنا۔ و۔ الرجلُ جلدی کرنا۔ و۔ الیه کے پاس پناہ لینا۔ و۔ زَنَأَ بولهُ پیشاب روکنا۔ و۔ زُنُوءاً بولهُ کے پیشاب کا رکنا۔ زَنَأَ علیه: پر تنگی کرنا۔ أَزْنَأَهُ: کو روکنا، پر چڑھنا، کو مجبور کرنا۔ الــزنــاء پیشاب روکنے والا، تنگ، قبر۔ الزَّنِئ: چھوٹی مشک۔ مشکیزہ۔

۲۔ زَنَأَ - زَنْأً و زُنُوءاً الظلُّ: سایہ کا سکڑنا۔ و۔ الرجلُ: زمین سے چمٹ جانا۔ الزَّنَاءُ: پستہ قد۔

۳۔ زَنَأَ - زَنْأً و زُنُوءاً الرجلُ خوش ہونا۔

زنب:۱۔ زَنِبَ - زَنَباً: موٹا ہونا، فربہ ہونا۔ الأزْنَبُ: موٹا پستہ قد۔ الــزَّیْنَــب بزدل، ایک خوش نما خوشبودار درخت۔ الزَّنَبِیّ آہستہ چال۔ زُنَابَةُ العقرب: بچھو کا ڈنک۔

۲۔ تَزَنْبَرَ علیه پر تکبر کرنا، تیوری چڑھانا۔ الزِّنْبَرُ (ح) شیر۔ الــزِّنْبَرِیّ: بھاری بھر کم آدمی، بڑی کشتی کہتے ہیں۔ سفینةٌ زِنْبَرِیَّةٌ: یعنی بڑی کشتی۔ الزُّنْبُر پھرتیلا خوش طبع، حاضر جواب۔ الزُّنبور بمعنی الزُّنْبُور۔ جمع زَنَابِیر واحد زُنْبُورةٌ (ح) بھڑ۔ الزِّنْبِیرُ و الزِّنْبار (ح) ڈنک مارنے والی مکھی۔ ارضٌ مَزْبَرَةٌ: وہ زمین جہاں بھڑوں کی کثرت ہو۔

۳۔ الزُّنْبُرُكُ گھڑی کا اسپرنگ (فارسی لفظ) اسے نابض بھی کہتے ہیں۔

○ زُنْبَرُك و زُنْبُرك جمع زنابك (دھاتی) سپرنگ چکر دار سپرنگ، بندوق وغیرہ کا گھوڑا یا کتا۔

۴۔ الزِّنْباعَةُ موزے یا جوتے کی نوک۔

۵۔ الزَّنْبَقُ جمع زَنابِق چنبیلی کا تیل۔ بانسری الزَّنْبَقِی واحد زَنْبَقَةٌ جمع زَنابِق (ن) سفید سوسن یا چنبیلی۔ اُمُّ زَنْبَق: شراب۔

۶۔ الزَّنْبَل پستہ قد مرد۔

○ زَنْبَلِك بمعنی زنبرك:

○ زَنْبِیل و زِنْبِیل زِنْبِیل جمع زَنابِیل کھجور کے پتوں کی ٹوکری۔

زنت: تَزَنْتَرَ مٹک کر چلنا۔ الزُّنْتُرةُ تنگی، تنگ حالی۔

○ زُنّارِی: پیچش

زنج ۱۔ زَنِجَ - زَنَجاً: پیاس سے آنتوں کا سکڑنا۔ زانَجَہُ کو اچھا یا برا بدلہ دینا۔ تَزَنَّجَ علیه پر دست درازی کرنا۔ الزَّنْجُ و الزِّنْجُ جمع زُنُوج: سوڈان کے حبشی، واحد زِنْجِیّ بھی اسے۔ زَنْج بھی کہتے ہیں۔

۲۔ الزَّنْجَبیلِ شراب (ن)، سونٹھ۔

۳۔ زَنْجَرَ انگوٹھے کے ناخن کو شہادت کی انگلی کے ناخن سے مارنا۔ الــزِّنْــجِیر ناخن کا کٹا ہوا حصہ۔ و۔ والزِّنجیرة نوجوانوں کے ناخن کی سفیدی۔

۴۔ الــزِّنْجَــار (ک) تانبے کا زنگ۔ الــزِّنْجِیــر زنجیر۔ کہتے ہیں۔ زَنْجَرَهُ فتزنجر یعنی لوگوں نے اس کے پاؤں میں بیڑی ڈالی تو وہ قید ہو گیا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ جنزیر: (فارسی لفظ ہے)

۵۔ الزِّنْجَفر و الزُّنْجُفر شنگرف (فارسی لفظ ہے)

○ زِنْجار Verdigris زنگار۔

○ زِنْجِیر جمع زَناجِیر زنجیر۔ حساب الزنجیر دوہرا کھاتہ۔

زنح ۱۔ زَنَحَ - زَنْحاً ہُ کی تعریف کرنا۔ زانَحَہُ ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔ تَزَنَّحَ الرجلُ کھل کر گفتگو کرنا، اپنے آپ کو مرتبہ سے زیادہ ظاہر کرنا۔

۲۔ زَنَحَ - زَنْحاً ہ کو دور کرنا، ہٹانا، کو معاملہ میں تنگ کرنا۔ زَنَحَ الماءَ پانی بار بار پینا۔ تَزَنَّحَ الماءَ پانی بار بار پینا۔ و۔ الرجل قرض یا کسی اور معاملہ میں کسی کو تنگ کرنا۔

زنخ:۱۔ زَنَخَ - زُنُوخاً القراد چیچڑی کا چمٹ جانا۔ زَنِخَ - زَنَخاً الدهنُ تیل کا متغیر ہونا، خراب ہونا۔ زَنِخ متغیر اور خراب تیل۔ زَانَخَہُ ایک دوسرے کو دھکیلنا۔ تَــزَنَّــخَ تکبر کرنا، کھل کر بات چیت کرنا۔ الــزَّنَخَــةُ اونٹ پیاس کی وجہ سے جن کے پیٹ تنگ ہو گئے ہوں۔

۲۔ زَنْخَرَ بمنخرہ فرائے لینا۔

زند: زَنَدَ - زَنْداً الاناءَ: برتن (کو) بھرنا۔ و۔ النارَ: چقماق سے آگ نکالنا۔ زَنَدَ السقاءَ مشک بھرنا۔ -: چقماق سے آگ نکالنا۔ ما یُزَنِّدك احدٌ علیه: کوئی تمہیں اس سے زیادہ نہیں دے گا۔ اَزْنَدَ الشیءُ چیز کا زیادہ ہونا۔ کہتے ہیں۔ مــا یُزنِدُكَ احدٌ علیه یعنی کوئی تمہیں اس سے زیادہ نہیں دیگا۔ الزَّنْد (مص) جمع زِناد و اَزْنُد و ازناد: چقماق کی اوپر کی لکڑی۔ الــزَّنْــدَه چقماق کے نیچے کی لکڑی، دونوں کو زندان کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ فلان واری الزند: یعنی فلاں شخص کامیاب و بامراد ہے۔ کابی الزند: یعنی ناکام۔ هما کالزَّنْدَین: دونوں برابر ہیں، یہ بات دنائت و خساست میں کہی جاتی ہے۔ اور ان دونوں کے لئے بولا جاتا ہے جن سے ضرورت پوری کی جائے۔ الــزِّنــاد تم اس شخص کو کہتے ہو جو تمہاری مدد کرے۔ وَرَتْ بك زِنادی: یعنی تم نے اسکی آگ نکالی مراد تمہارے ذریعے میری ضرورت پوری ہوئی۔

۲۔ زَنِدَ - زَنَداً الرجلُ پیاسا ہونا۔ زَنِدَ فی الأمر: تنگ دل ہونا۔ و۔ علی اهله اپنے گھر والوں پر سختی کرنا۔ اَزْنَدَ الرجلُ فی وجعه: آدمی کا پھر بیمار ہو جانا۔ تَــزَنَّــدَ غضبناک ہونا، جواب نہ دے سکنا، آپ کہتے ہیں۔ سألتــه مسئلة فتزند یعنی میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکا۔ و۔ فی امر کذا تنگ دل ہونا۔ المُزَنَّدُ تنگ، کنجوس، کم چوڑا کپڑا۔ عطاءٌ مُزَنَّدٌ تھوڑی بخشش۔

۳۔ زَنَّدَ جھوٹ بولنا۔ المُزَنِّدُ جھوٹا۔

۴۔ الزَّنْد جمع زِناد و اَزْنُد و أَزْناد (ع) ہاتھ کا گٹا۔ و۔ او المِــغْلاق (ن) کئی پھولوں میں مستطیل باریک اور مشترکہ جسم جس سے ہر پھول کے لئے علیحدہ علیحدہ شگوفے پھیلتے ہیں۔

○ زَنْد (مذکر و مونث) جمع زناد و زُنُود چقماق۔ زَنْد و زِنْد جمع زُنُود ہاتھ کی اندرونی ہڈی۔ زند اسفل: بازو کا اگلا حصہ (کہنی سے کلائی تک) زِناد جمع اَزْنِدَة: چقماق (بندوق وغیرہ کا) گھوڑا، کتا۔ حَجَرُ الزِّناد چقماق۔

۵۔ تَزَنْدَقَ: زَنْدَقَة سے متصف ہونا۔ بے دین ہونا، بد اعتقاد ہونا۔ زِنْدِیق: بے دین، بد اعتقاد۔ جمع زَنادِقة و زَنادِیق (فارسی لفظ ہے) مثال میں کہا جاتا تھا۔ من تمنطق تزندق یعنی جس نے منطق کا علم سیکھا وہ بد اعتقادی میں گر گیا۔ یعنی بے دین و بد اعتقاد

ہوگیا۔ الزِندِیق : مکار اور زیرک ایسا شخص جو نہ تو حرمت کا خیال کرے نہ محبت قائم رکھے۔ الزندقۃ : باطن میں کفر اور ظاہر میں ایمان۔ رجل زَندَقٌ و زَندَقِیٌّ : سخت کنجوس آدمی بہت ہی مکھی چوس۔

○ تَزَندَق : آزاد خیال ہونا، دہریہ، کافر یا ملحد ہونا۔ زَندَقۃ : کفر، انکار خدا، الحاد۔ زِندِیق : کافر، دہریہ، ملحد، آزاد خیال۔

زنر : زَنَرَ - زُنُوراً الاناءَ : برتن بھرنا۔ و۔ الغلامَ : لڑکے کو جینو پہنانا۔ زَنَّرَ اِلَیَّ بعینہ : اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ تَزَنَّرَ : زنار پہننا، جنیو پہننا، باندھنا۔ و۔ الشی ءُ : باریک ہونا۔ الزُنَّار جمع زَنَانِیر و الزُنَّارۃ : جنیو۔ الزَنَانِیر : چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔

○ زُنَّار و زُنَّارۃ جمع زَنَانِیر : پیٹی، کمر کند، پٹکا، کمر کے گرد باندھنے والی رسی یا پٹی۔

رنز : الزَنزَلَخت جسے الا ذادرَخت (ن) بھی کہتے ہیں۔ ایک خوبصورت درخت جس کا اصل وطن فارس ہے مشرق وسطی میں آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے، پھول خوشہ کی طرح ہوتا ہے۔

○ زِنزَانَۃ جمع زنزانات : جیل کی کال کوٹھڑی،

○ زِنطَارِیَۃ : پیچش۔

زنف : زَنِفَ - زَنَفاً و تَزَنَّفَ : غضبناک ہونا۔

زنق : زَنَقَ - زُنُقاً الفرسَ : گھوڑے کے جبڑے کے نیچے تسمہ لگانا۔ و۔ البغلَ : خچر کی ٹانگوں میں پائے بند باندھنا۔ و۔ علی اولادہ : مفلس اور کنجوسی کے باعث اپنی اولاد پر خرچ کرنے میں بخل سے کام لینا۔ زَنَّقَ الفرسَ : گھوڑے کے جبڑے کے نیچے تسمہ لگانا۔ و۔ البغلَ : خچر کی ٹانگوں میں پائے بند باندھنا۔ و۔ علی اولادہ : مفلس اور کنجوسی کی وجہ سے اپنی اولاد پر خرچ کرنے میں بخل کرنا۔ اَزنَقَ علی اولادہ : ایضاً الزَنَق جمع زُنُوق : نیزے کی نوک، گھوڑے کا نچلا جبڑا جہاں تسمہ باندھتے ہیں۔ الزَنقَۃ : تنگ کوچہ، گلی۔ الزِناق جمع زُنُق : رسی یا تسمہ جو گھوڑے کے نچلے جبڑے کے نیچے باندھا جاتا ہے، خچر کا پائے بند۔ گلو بند (ایک زیور) الزِنَاقَۃ : گھوڑے کے جبڑے کے نیچے کی رسی کا حلقہ یا کڑی۔ الزَنِیق : محکم، مضبوط۔ رائ زَنِیق : صائب رائے المَزنُوق (مفع) بند پیشاب والا۔

○ زَنَقَ ـــ زَنقاً ہ : کو کسنا، کس کر لگانا یا باندھنا، کو سکیڑنا، (جانور کی ٹانگیں) ایک ساتھ باندھ دینا۔ زَنَقَ علی : کے ساتھ بخل سے کام لینا، کے راتب میں کنجوسی کرنا۔ زَنقَۃ جمع زَنَق : تنگ گلی، بند گلی۔ زِناق : گریبان۔

کالر۔

زنك : الزِنك (ک) ایک قسم کا پتھر جس سے سرمہ بنایا جاتا ہے۔ زِنك۔

زنم : زَنَّم لہ الخصمَ : (کو) دشمن کے مقابلہ کے لئے بھیجنا۔

۲۔ الزَنَم من الجمال م زَنمۃ : اونٹ جس کے کان کا کچھ حصہ کاٹ کر لٹکتا چھوڑ دیا گیا ہو۔ الازنم من الجمال م زَنماء جمع زُنم : بمعنی الزَنَم، الزَنَمۃ : اونٹ یا بکری کے کان کا حصہ جو کاٹا جاتا ہے اور لٹکتا رہتا ہے۔ حلق کے نیچے کا لٹکتا ہوا گوشت، نشان کہا جاتا ہے۔ فی کلامہ زَنَمۃُ خیر او زَنَمۃُ شرّ : یعنی اس کی گفتگو میں نیکی یا بدی کی علامت ہے۔ زنمتا الاذُنِ (ع ا) کان کی لویں۔ الزُنام : مصیبت۔ الزَنِیم : لئیم، کمینہ، منہ بولا بیٹا، ـــــ والمُزَنَّم : قوم میں داخل اجنبی آدمی جس کی قوم حاجت مند نہ ہو۔ ناقۃ مُزَنَّمۃ : اونٹنی جس کے کان کا کچھ حصہ کاٹ کر لٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا ہو۔

○ زَنمَردَۃ : لڑاکا عورت، زن مرد صفت۔

زنا : زَنَا - زُنُوّاً : تنگ ہونا۔ زَنِیٌّ : تنگ۔ زَنَّی تَزنِیَۃً علیہ : پر تنگی کرنا۔

زنی : زَنَی - زِنیً وزِنَاءً وزَانَی مُزَانَاۃً وزِنَاءً : زنا کرنا۔ زَانٍ جمع زُنَاۃ : زانی۔ زَانِیۃ جمع زَوَانٍ : زانیہ۔ زَنَّی ہُ : کی طرف زنا کی نسبت کرنا اور اسے زانی کہنا۔ اَزنَی ازناءً ہُ : کو زنا پر اکسانا، ابھارنا۔ الزَانِیَۃ (اس میں تا مبالغہ کے لئے ہے) زناکار۔ الزَنَّاءۃ : بہت زناکار۔

۲۔ الزَنَّاءۃ : بندریا۔

○ زِنًی و زِنَاء : زناکاری، زنا، حرام کاری۔

زہ : زِہ : واہ، خواب، بہت اچھا۔ کبھی تمسخر کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس طرح برا کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ بہت خوب۔

زہد : ۱۔ زَہَدَ و زَہِدَ - وزَہُدَ - زُہداً و زَہَادۃً فی الشیءِ و عنہ : بے رغبتی سے کسی چیز کو چھوڑ دینا، اسی سے ہے زہد فی الدنیا : اس نے دینوی خواہشات ترک کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ کر لیا۔ صفت فاعلی : زاہد۔ صفت مفعولی : مزہود فیہ و عنہ۔ زَہَّدَہُ فی الشیءِ و عنہ : کو میں بے رغبت کرانا۔ تَزَہَّدَ : عبادت کے لئے دنیا ترک کر دینا۔ تزاہد القوم فلاناً : کسی کو حقیر جاننا یا ذلیل سمجھنا۔ اِزدَہَدَ الشیءَ : کو تھوڑا خیال کرنا۔ الزُہد و الزَہَادۃ (مص) کسی شئے سے بے رغبتی،

روگردانی۔ شیءٌ زَہِید : تھوڑی چیز۔ الزَہَد جمع زِہَاد : زکات، زکوٰۃ۔ الزاہد (فا) جمع زُہَّد و زُہَّاد و زاہدون : آخرت کی محبت میں تارک دنیا۔ تنگ خو۔ الزہید م زہیدۃ جمع زُہدان : تھوڑا کہتے ہیں۔ ہو زہید الخُلُق : وہ تنگ خو ہے۔ ہو زہید العین : وہ قانع ہے۔ وادٍ زَہِیدٌ : وادی جس میں تھوڑا پانی سما سکے، حقیر۔ المُزہِد : کم مال والا۔ ارضٌ زَہَادٌ : پانی پی جانے والی زمین۔ الزَہِید : بہت ہی بے رغبت شخص۔

۲۔ زَہَدَ - زَہداً النخلۃَ : درخت خرما پر پھلوں کا اندازہ کرنا۔ زَہَّدَ و اَزہَدَ النخلَ : کھجور کے درخت پر پھلوں کا اندازہ کرنا۔ الزَہد : کہتے ہیں۔ خُذ زَہدَ ما یکفیك : بقدر کفایت لے لو۔

○ زَہَدَ ـــ وزَہِدَ - وزَہُدَ - زُہداً ہ / فی / عن : سے پرہیز کرنا، دستبردار ہونا۔ کو چھوڑ دینا، سے الگ ہو جانا۔ ہ / فی : سے پیچھے ہٹنا، سے تعلق سے انکار کرنا۔ زہد فی الدنیا : تارک الدنیا ہو جانا، زاہدانہ اور پارسا زندگی گزارنا۔ زَہَّدَہ فی : کو سے پرہیز کرنے کی ترغیب دینا، کی میں لذت بے لطف کر دینا، کی سے نفرت ابھارنا۔ تَزَہَّدَ : تارک دنیا ہونا۔ اِستَزہَدَ : غیر اہم، چھوٹا، ناچیز تصور کرنا۔ زُہد فی : سے (رضا کارانہ) دستبرداری، سے بے اعتنائی۔ ـــ زہد : پرہیز گاری، احتراز، اجتناب۔ الزُہد فی الدنیا : ترک دنیا، زہد، ریاضت۔ زَہِید : تھوڑا، ادنی، معتدل، غیر اہم، چھوٹا، معمولی سا۔ ـــ من : کا تھوڑا سا، کی تھوڑی سی مقدار۔ زَہَادۃ : چھوٹا پن، ہلکا پن، قلت، گراوٹ، پستی، معتدلی۔ تَزَہُّد : ترک دنیا، خدا کی عبادت میں وقف زندگی۔ زاہد : تارک الدنیا، نفس کش، پرہیزگار، پارسا، اعتدال پسند۔

زہر : زَہَرَ - زُہُوراً السراجُ او القمرُ او الوجہُ : چراغ یا چاند یا چہرے کا چمکنا، روشن ہونا۔ و۔ الشیءُ : کا صاف رنگ ہونا۔ و۔ الزَندُ : چقماق سے آگ نکلنا کہتے ہیں۔ زہرت بك زنادی او ناری : تمہاری وجہ سے مجھے قوت و عزت نصیب ہوئی۔

زَہِرَ - زَہَراً و زَہُرَ - زُہُورۃً الرجلُ : حسین و بارونق ہونا۔ اَزہَرَ النارَ : آگ جلانا، روشن کرنا۔ تَزَاہَرَ السراجُ و نحوہ : چراغ وغیرہ کا چمکنا، روشن ہونا۔ اِزدَہَرَ : روشن ہونا اور چمکنا۔ و۔ بالامر : کی حفاظت کرنا اور دل میں رکھنا کہا جاتا ہے۔ اِزدَہِر بہذا فانّ لہ شاناً : اس بات کی حفاظت کر و ضائع نہ ہونے دینا۔ زَہرُ النَردِ : تاش۔ الزِہر و الزِہرۃ : حاجت،

ضرورت کہا جاتا ہے۔ قضیتُ منهُ زُهری وزُهُرتی: میں نے اس سے اپنی ضرورت پوری کی الزُّهَر: قمری مہینہ کی ابتدائی تین راتیں۔ الـزُّهْـرَة: خوبصورتی، رونق اور حسن و جمال۔ زَهْرَةُ الدنیا جمع زَهْر و اَزْهار وزُهُور و ازَاهِیر: دنیا کی رونق و خوبی و فراخی و خوشحالی۔ الزُّهَرة (فلک): ایک ستارہ جو سورج سے اوسطاً 108 ملین کلومیٹر دور ہے، بہت زیادہ چمکدار ہے، کبھی صبح کا ستارہ اور کبھی شام کا ستارہ ہوتا ہے۔ شام اور عراق کے بعض پڑوسی عربوں کا معبود تھا اور وہ اسے عُـزّیٰ کہتے تھے۔ و۔ عـنـد الاقـدمـیـن: قدماء کے ہاں حسن کی دیوی۔ الـزاهِر (فا): صاف چمکدار رنگ والا۔ احمرٌ زاهرٌ: گہرا سرخ۔ الأزهر م زهراء جمع زُهْـر: روشن، صاف رنگ والا، چمکیلے چہرہ والا، چاند (ح) جنگلی بیل۔ الأزهَران. سورج و چاند۔ المُزْهِر: مہمانوں کے لئے آگ جلانے والا، مہمان نواز۔ المِزهَر (مو) جمع مَزاهِر: سارنگی۔ الزَّهّار: بہت چمکیلا کہتے ہیں۔ نـجمٌ زَهّارٌ و قمرٌ نوّارٌ: بہت چمکیلا ستارہ اور بہت روشن چاند۔ الـزاهِـريَّة: ناز کی چال کہتے ہیں۔ هـو يمشي الزاهرية: وہ ناز سے چلتا ہے۔

۲۔ازهـرَ النباتُ: پودے کا شگوفے دار ہونا۔ ازْهَرَّ و ازْهارَّ النباتُ: پودے کا شگوفے نکالنا۔ کلی دار ہونا۔ الزَّهْر والزَّهَر واحد الزَّهْـرة والزَّهَـرة جمع أزْهُر وأزهار وزُهُور وجمع الجمع أزاهِر وازاهِير: (ز) کلی شگوفہ پھول۔ الزاهر: خوشنما پودا۔ المزهرِيَّة: گلدان، گملہ۔

۳۔زهرف الشيءَ: کو کھوٹا بتانا۔

۞ زهَـرَ ـ زُهُورًا: چمکنا، روشنی دینا، تابندہ ہونا، فروزاں ہونا۔ ازْهَرَ: دہکنا، دمکنا، لہکنا، جھلکنا، چمکنا، روشن ہونا، شگوفے نکالنا، پھولنا، پھلنا، بہار پر آنا۔ ازْدَهَرَ: آب و تاب سے چمکنا، تابندہ و فروزانی ہونا، شگوفے نکالنا، پھولنا، پھلنا، بہار پر آنا، پورے عروج پر ہونا۔ ترقی کرنا، پنپنا، فروغ پانا۔ زَهْر واحد زَهْرة جمع زُهُور و أزْهُـر و أزْهـار و ازاهِـيـر: پھول، شگوفے۔ زهرُ الحديد: ذکی لوہا۔ زهر الثالوث: بنفشہ کی قسم کے پھولوں کے نام۔ زهـر الربيـع: بسنتی پھول۔ زهر العسل: شہد آشام (ایک خوشبودار بیل) زهـر اللؤلؤ: ڈیزی۔ ماء الزهر: مالٹا جوس۔ زَهْـرَة جمع زَهَرات: پھول، شگوفہ، حسن، دمک، آب و تاب۔ زُهْرَة: روشنی، چمک، دمک، آب و تاب، حسن و جمال، طباعی۔ الزُّهَرة: سیارہ زہرہ۔ زُهَری: آتشک

امراضٌ زهرية: جماعی امراض۔ زُهْرِيَة جمع زهريات: گلدان۔ زَهّـار: گل فروش۔ زَهْـراوي: مسرور، خوش، شاداں، فرحاں شادمان (شخص) ازْهَـر: تابناک، چمکدار، روشن تاباں، تابندہ، درخشندہ، درخشاں، زیادہ تابندہ، زیادہ چمکدار، زیادہ روشن۔ الازهـران: سورج اور چاند۔ جامعُ الازهر و الجامع الازهر: قاہرہ میں الازہر جامع مسجد اور یونیورسٹی۔ الازهری: الازہر یونیورسٹی کا یا کے متعلق جمع ازْهَـرِيُّون: الازہر یونیورسٹی کا طالب علم۔ مِزْهَر جمع مَزَاهِر: قدیم عربی بربط کی ایک قسم۔ آج کل تلفظ مِزْهَر ہے اور یہ ایک قسم کا طنبورہ ہے۔ مَزْهَرِية: گلدان۔ تَزْهِير: کلی، شگوفہ، شادابی، شگفتگی، ازهـار: شادابی، شگفتگی۔ ازدهـار: شادابی، شگفتگی، پنپنا، پھول، کلی، شگوفہ، زاهِر: چمکدار، روشن، تاباں، درخشاں، تابان، مُزْهِر: پھولنے پھلنے والا، بہار پر، چمکدار، روشن، درخشاں، تاباں۔

زهز: زَهْزَقَ الرجلُ: بہت ہنسنا۔ و۔ تِ الأمّ ولـدها: ماں کا بچے کو اچھالنا۔ کدانا۔ الزَّهْزَق: لئیم، کمینہ۔

زهف: زَهَفَ ـ زُهُـوفـاً الرجلُ: ہلاک ہونا۔ ازْهَفَ الشـيءَ: کو لے جانا۔ و۔ فلانـاً: کو ہلاک کرنا۔ اِزْدَهَفَهُ: کو ہلاک کرنا۔ و۔ الشيءَ وبـه: چیز کو لے جانا۔ و۔ الحملَ: بوجھ اٹھانا۔ و۔ تـهُ الدابةُ: جانور کا کسی کو پچھاڑنا، پٹکنا۔

۲۔زَهَفَ ـ زُهُوفاً للموت او الى الموت: موت کے قریب ہونا۔ قریب المرگ ہونا۔ زَهِفَ ـ زَهَفاً للشيء: کے لئے جلد کرنا، چستی کرنا۔ ازْهَفَ الشيءَ: کی جلدی کرنا۔ و۔ اِلیه الطعنةَ: کو نیزے کی ضرب کے قریب کرنا۔ و۔ تـه الطعنةُ: کو موت کے قریب پہنچا دینا۔ و۔ الرجلُ: شر کی طرف جلدی کرنا۔ و۔ فلاناً: کے ساتھ برائی کرنا۔ و۔ علی الجريح: حملہ کر کے زخمی کا کام تمام کر دینا۔ و۔ بما طلبه: کا مطالبہ پورا کرنا۔ اِنْزَهَفَ تِ الدابةُ: جانور کا مار وغیرہ کی وجہ سے کودنا۔ اِزدهفَهُ: سے جلدی کرنے کو کہنا، کو ہلکا جاننا۔ و۔ فـلانٌ: شر میں پڑنا۔ و۔ اِلـى الـمـوت: قریب المرگ ہونا۔

۳۔زَهَفَ زُهُوفاً الرجلُ: جھوٹ بولنا۔ ازْهَفَ الرجلُ: چغلی کھانا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا۔ و۔ الـخبـرَ: خبر میں اضافہ کرنا، خبر میں کچھ بڑھا دینا۔ و۔ لـه حديثاً: سے جھوٹ بات کہنا۔ و۔ اِلـیه حـديثاً: کسی کی طرف ردی بات کی نسبت کرنا۔ و۔ الشيءَ: کو بگاڑنا، خراب کرنا۔ و۔ بالشر: کو برائی پر ورغلانا۔ و۔ بالشيء: کو چیز اچھی لگنا۔ اِزدهفَ فـلانٌ: کلام میں زیادتی کرنا۔ و۔ فـي کلامِهِ: اپنی گفتگو میں سختی کرنا اور آواز اونچی کرنا۔ و۔ العداوةَ وبها: دشمنی اختیار کرنا۔

۴۔ زَهَفَ ـ زُهُوفاً الرجلُ: ذلیل ہونا۔ ازْهَفَ فلاناً: فلاں کو ذلیل کرنا۔

۵۔ ازْهَفَ الشيءَ: کو ڈھیلا کرنا۔ تزَهَّف عنه: سے اعراض کرنا۔ ازهف عنه: سے اعراض کرنا۔ الشيءُ: چیز کا انحراف کرنا اور مائل ہونا۔

۞ زهف اِلى الموت و ازدهف الى الموت: قریب المرگ ہونا۔

زهق: ا۔ زَهَقَ ـ زُهُوقاً الباطلُ: باطل کا مٹنا۔ و۔ زَهْقاً وزُهُوقاً ت النفسُ: روح کا جسم سے نکلنا۔ و۔ الشيءُ: باطل ہونا، ہلاک ہونا۔ و۔ ت روحُهُ: بے کلی سے دل ٹوٹنا۔ ازْهَقَ الحقُ الباطلَ: حق کا باطل کو نیست و نابود کر دینا۔ ازْهَقَ الباطلَ: باطل کو مٹا ڈالنا۔ الـزَّهْـق والـزَّهَـق: گڑھا۔ الـزَّاهِـق والزَّهُوق: باطل ہلاک ہونے والا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے "قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً: کہہ دو حق آگیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے والا) گہرا کنواں۔ بـئـرٌ زاهِقة: بہت گہرا کنواں۔ المَـزْهَـقَة: بطلان و ہلاکت کا سبب۔ جمل مَزْهَقَةٌ لأرواح المطي: سواری کے جانور جان توڑ کوشش کے باوجود اونٹ تک نہیں پہنچ پاتے۔

۲۔زَهَقَ ـ زَهْقاً و زُهُوقاً ت الراحلةُ: سواری کا آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔ و۔ السهمُ: تیر کا نشانہ سے گزر جانا۔ ازْهَقَ السهمَ: تیر کو نشانہ سے آگے گزار دینا۔ و۔ تِ الناقة السَّرجَ: اونٹنی کا زین کو آگے سرکا کر گردن پر ڈال لینا۔ و۔ فـي السير: چلنے میں جلدی کرنا۔ اِنزَهَقَ: سبقت لے جانا اور آگے بڑھنا۔ و۔ تِ الدابةُ: مار وغیرہ کی وجہ سے جانور کا اچھلنا کودنا۔

الزَهِق: سرکش۔ الزاهِق (فا) (ج) زُهَّقٌ و زُهُق: شکست خوردہ شخص۔ و۔ من السهام: وہ تیر جو نشانہ سے آگے جا کر اس کے پیچھے جا گرے۔ و۔ من المياه: تیز بہتا پانی۔ الزاهقة زاهق کا مونث۔ فـرسٌ زَهَـقَـى: گھوڑی جو گھوڑوں سے آگے نکل جاتی ہو۔ الأُزْهُوقة جمع أزاهِيق: تیز رفتاری میں تعجب انگیز کہتے ہیں۔ فـرسٌ ذات ازاهيق: یعنی تیز چلنے میں تعجب انگیز گھوڑی۔ جـاءت الخيلُ ازاهِيقَ و أزاهِيق: گھوڑوں کے گروہ علیحدہ علیحدہ آئے۔

۳۔زَهَقَ ـ زُهُوقاً العظمُ: ہڈی کا گودے دار ہونا۔ زاهَقَ الاناءَ: برتن الٹ دینا۔ ازْهَقَ العظمُ: ہڈی

کا گودے دار ہونا۔ و۔ الاناءَ: برتن بھرنا۔ الزَّاهِق جمع زُهُق و زُهَّق: موٹا جانور، بہت لاغر و دبلا جانور۔

۴۔ الزَّهَق: پست زمین۔ الزُّهاق والزِّهاق: مقدار کہتے ہیں۔ عندی زُهاق مائة دینار: میرے پاس تقریباً سو دینار ہیں۔

○ زَهَن ـ زَهْقًا و زُهُوقًا: مرنا، زائد المیعاد ہونا، ناکام رہنا۔ زهقت نفسُهُ وزهقت رُوحُه: مرنا۔ ـ مِن: سے تھک جانا، اکتا جانا، متنفر ہونا۔ اَزْهَقَ ہٗ: کی تباہی یا زوال کا باعث ہونا، کو تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا۔ اَزْهَقَ النفس (الروح): نفرت انگیز ہونا، گھناؤنا ہونا۔ زَهُوق: مرنے والا، آنے جانے والا، معدوم ہو جانے والا۔

زھل: ۱۔ زَهَلَ ـ زَهْلاً عن الشیء: سے دور ہونا۔ زَهِلَ ـ زَهَلاً الشیءُ: سفید و چکنا ہونا۔ الزَّاهِل: مطمئن دل والا۔ الزُّهْلُول جمع زَهَالِيل: چکنا۔

۲۔ زَهْلَقَ الشیءَ: کو چکنا و سفید کرنا۔ تَزَهْلَقَ: چیز کا چکنا اور سفید ہو جانا کہتے ہیں زَهْلَقَ له الحدیثَ: اس نے اسکو نرم گفتگو سے مخاطب کیا۔ الزِّهْلِق جمع زَهَالِيق: چکنا، تیز اور ہلکا پھلکا آدمی۔ تند ہوا، بتی میں لو کی جگہ۔

۳۔ تزهلق الحیوانُ: جانور کا فربہ ہونا۔ حمار زِهْلِق: فربہ اور برابر پیٹھ والا گدھا۔ الزُّهْلُوق: موٹا، فربہ۔

زھم: ۱۔ زَهَمَ ـ زَهْمًا وازْهَمَ العظمُ: ہڈی کا گودے سے بھرا ہونا۔ زَهِمَ ـ زَهَمًا: بدہضمی میں مبتلا ہونا۔ زَهْمان: بدہضمی میں مبتلا و ـ: بہت چکنا اور چربی دار ہونا۔ زَهِم م زَهِمَة: بہت چکنا، چربی دار۔ الزُّهم: چربی، بدبو۔ سڑانڈ، ایک قسم کی خوشبو جو زباد کہلاتی ہے۔ الزَّهَم والزُّهْمَة و الزُّهُومة: سڑے ہوئے گوشت کی بو۔

۲۔ زَهَمَ ـ زَهْمًا الرَّجلَ: کے خلاف بہت باتیں کرنا۔ و۔ ہٗ عن کذا: کو سے روکنا، باز رکھنا، پرڈانٹنا۔ اَهَمَ ہٗ: آپس میں دشمنی رکھنا۔ ایک دوسرے سے جدا ہونا، نزدیک ہونا (ضد)۔

○ زُهْم: ناگوار بو۔ زَهِم: بدبودار، متعفن۔ زُهْمَة: ناگوار بو۔ زُهُومَة: ناگوار بو۔

زھا: ۱۔ زَهَا ـ زَهْوًا وزُهُوًّا و زُهَاءً الرَّجُلُ: تکبر کرنا۔ و۔ زَهْوًا فلانًا: کو حقیر جاننا، سمجھنا۔ و۔ الکِبْرُ فلانًا: تکبر کا کسی کو خود پسند بنانا۔ زُهِيَ الرَّجُلُ بکذا: پر تکبر کرنا۔ أُزْهِي: تکبر کرنا۔ ازْدَهَى الرَّجُلَ: کو مغرور بنانا، کو حقارت سے دیکھنا۔ و ـ ہٗ و بہ: کو ہلکا جاننا۔ و ہٗ علی الامر: (کو) پر مجبور کرنا۔ الزَّهْو (مص) فخر، تکبر و غرور، ظلم۔ المَزْهُوّ والمُزْدَهَى: متکبر، مغرور۔

۲۔ زَهَا ـ زَهْوًا و زُهُوًّا وزُهَاءً الرجلُ: جھوٹ بولنا۔ الزَّهْو (مص) باطل اور جھوٹ۔

۳۔ زَهَا ـ زَهْوًا وزُهُوًّا و زُهَاءً: پھلنا پھولنا، بڑھنا، نشوونما پانا۔ و۔ النخلُ: کھجور کا دراز ہونا۔ و۔ الغلامُ: لڑکے کا جوان ہونا۔ و۔ تِ الشاةُ: بکری کا جننے کے قریب ہونا۔ و۔ تِ الامواجُ السفینةَ: موجوں کا کشتی کو اوپر اٹھا دینا۔ و۔ یَزْهَى: (یزهو نہیں کہا جاتا) السرابُ الاکمةَ: سراب کا ٹیلہ پر چڑھ جانا۔ اَزْهَى النخلُ: کھجور کا دراز ہونا۔

۴۔ زَهَا ـ زَهْوًا و زُهُوًّا و زُهَاءً: چمکنا، روشن ہونا، بڑھنا نمو پانا۔ و۔ النبتُ: نبات کا پھل دار ہونا۔ و۔ البُسرُ: کچی کھجور کا رنگ پکڑنا۔ و۔ السراجَ: چراغ روشن کرنا۔ و۔ فلانٌ بالسیف: تلوار چمکانا۔ و۔ فلانًا بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ زَهَّى البسرُ: کچی کھجور کا رنگ پکڑنا۔ اَزْهَى البسرُ: ایضاً۔ الزَّهْو: (مص) تر و تازہ نبات، رنگدار کچی کھجور۔ و۔ والزُّهاء: تر و تازگی، حسن۔ زُهَا الدنیا: دنیا کی زینت اور شان و شوکت۔ الزُّهُو (مص) رنگدار کچی کھجور۔ الزَّاهِي (فا) م زاهیة: تر و تازہ چمکدار چہرے والا۔

۵۔ زَهَا ـ زَهْوًا و زُهُوًّا وزُهَاءً ات الریحُ: ہوا کا چلنا۔ و۔ تِ الریحُ النباتَ: ہوا کا پودوں کو ہلانا۔ زَهَّتِ المِرْوَحَةُ الریحَ: پنکھے کا ہوا کو ہلانا، جنبش دینا۔

۶۔ الزُّهاء: مقدار کہتے ہیں۔ عندی زُهاءُ خمسین دینارًا: میرے پاس تقریباً پچاس دینار ہیں۔

○ زَها ـ زُهُوًّا: شگوفے نکالنا، پھولنا، پھلنا، بہار پر آنا، بڑھنا، پنپنا۔ آب و تاب سے چمکنا، چمکدار ہونا، روشن ہونا، جھلکنا، دمکنا، تمتمانا، شیخی بگھارنا، مغرور ہونا۔ ـ ب: پر فخر کرنا، پرڈینگ مارنا، بڑھانکنا۔ اَزْهَى: شگوفے نکالنا، پھلنا، پھولنا، بہار پر آنا، پھول کھلانا، بڑھنا، پنپنا، مغرور ہونا، لاف زنی کرنا۔ اِزْدَهَى و اُزْدِهِيَ: مطمئن ہونا، مغرور ہونا، متکبر ہونا۔ اِزْدَهَى ب: میں چمکنا، روشن ہونا، (فضیلت) ظاہر کرنا، کی شیخی مارنا، بڑ ہانکنا۔ زَهْو و زُهُو: کلی، شگوفہ۔ فصل گل، شادابی، شگفتگی، آب و تاب، حسن و جمال، غرور، تکبر، نخوت، اکڑفوں، خود پسندی، بیجا غرور، جھوٹا ناز۔ لاحاصل چیز یا چیزیں۔ تفریح۔ زَهِي: درخشاں، شاندار، پرشکوہ، ٹھاٹھ کا، بیش بہا۔ زَهاء: درخشانی، تابانی، تابندگی، آب و تاب، شان و شوکت۔ زُهَاء: عدد، مقدار۔ زُهاءَ: تقریباً، لگ بھگ، کچھ (عدد، مقدار وغیرہ)۔ اَزْهَى: زیادہ پنپنے والا، زیادہ مغرور، زیادہ متکبر۔ اِزْدِهاء: پھول، کلی، شگوفے، فصل گل، شادابی، شگفتگی، پنپنا، بہار، جوبن، چمکنا، دمکنا، آب و تاب، شان و شوکت، درخشانی، تابانی، فخر۔ زاهٍ: چمکدار، تاباں، روشن درخشاں، تابندہ، شان دار، ٹھاٹھ کا، زرق برق، پرشکوہ، خوبصورت، بھڑکیلا۔ مَزْهُوب: پرفخر کرنے والا ـ: مغرور، متکبر، نخوت پسند، شیخی خورہ، لاف زن، خود پسند۔

زاء: زَاءَ ـ زَوْءًا به الدهرُ: سے زمانہ کا پلٹ جانا۔

زاب: زَابَ ـ زَوْبًا: چپکے سے بھاگ جانا۔ ـ الماءُ: پانی کا بہنا۔

زاج: ۱۔ زَاجَ ـ زَوْجًا بینهم: کو بھڑکانا کے درمیان فساد ڈالنا۔ پھوٹ ڈالنا۔

۲۔ زَوَّجَ ہٗ امرأةً او بامرأةٍ او لامرأةٍ: کا کسی عورت سے نکاح کرنا۔ و۔ الشیءَ بالشیءِ والیه: کو سے ملانا جوڑنا۔ زَاوَجَ ہٗ: ایک دوسرے سے میل جول رکھنا اور ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ و۔ و ازْوَجَ بینهما: کو قریب کرنا۔ تزَوَّجَ امرأةً و بامرأةٍ: کسی عورت سے نکاح کرنا۔ و۔ فی قوم: کسی قوم میں انکی کسی عورت سے نکاح کرنا۔ تَزَوَّجَهُ النوم: اسے نیند آ گئی۔ تَزاوَجَ وازْدَوَجَ الکلامُ: کلام کے ایک حصہ کا دوسرے حصہ سے سجع یا وزن میں مشابہ ہونا۔ و۔ القومُ: آپس میں شادی بیاہ کرنا۔ الزَّوْجُ جمع ازْوَاج و زِوَجَة وجمع الجمع زَاوِیج: خاوند، شوہر، بیوی، زوجہ، ساتھی، جوڑا۔ اشتریتُ زَوْجَی نعال: میں نے جوتی کا جوڑا خریدا۔ ہر شے کی قسم۔ الزَّوْجة جمع زوجات: بیوی۔ الزِّوَاج: تَزَوَّجَ کا اسم۔ شادی بیاہ۔

۳۔ الزاج (ك): گندھک کے تیزاب کا نمک جو کپڑے رنگنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عامی لفظ "جاز" ہے۔

○ زَوَّجَ ہ ب/ من: کو کے ساتھ جوڑنا، ملانا ـ ہ: کو جوڑوں میں ملانا، کو دگنا کرنا، پیدا کرنا ـ: مساوات قائم کرنا ـ ھا ہ / ب / من: عورت کی کسی مرد سے شادی کر دینا۔ زَاوَجَ: جوڑا بنانا ـ بین: متوازی عبارت میں دو لفظ استعمال کرنا۔ دو لفظوں کو ایک جوڑے میں شامل کرنا ـ بین ـ و): کی کے ساتھ شادی کرنا۔ کو ازدواجی بندھن میں کے ساتھ جوڑنا، کو نکاح میں کے ساتھ متحد کرنا۔ تَزَوَّجَ ہ/ علی / ب / من: سے شادی کرنا، سے شادی شدہ ہونا۔ تَزَاوَجَ:

مختلف خاندانوں وغیرہ کا شادی بیاہ کے ذریعے آپس میں مل جانا۔ جوڑا جوڑی ہونا۔ دوگنا ہونا اِزْدَوَجَ: جوڑا بنانا، شادی کرنا، جوڑا ہونا، دوگنا ہونا، دوبارہ ظاہر ہونا۔ زَوْج جمع اَزْواج: جوڑے میں سے ایک، شوہر، بیوی، ساتھی، جوڑا، (جوتیوں کا) جوڑا زوجات: بیوی۔ زِیْجَة: شادی۔ زَوْجِی: جوڑوں میں، دوگنا، ازدواجی، شوہر سے متعلق، متاہل زندگی سے متعلق۔ زِیْجِی: ازدواجی، متاہل زندگی کے متعلق۔ زناشوئی۔ زَوْجِیَة جمع زوجیات: شادی۔ زواج من: سے شادی۔ وحدة الزواج: ایک زوجگی۔ مزواج: اکثر شادی کرنے والا۔ تزویج ها من: عورت کی کسی سے شادی کرنا۔ زِواج: مثنیٰ بنانا، دوچند کرنا، دوگنا کرنا۔ متوازیت۔ مُزَاوجَة: جوڑا بنانا، دو چیزوں کا اتحاد۔ تَزَوُّج: شادی۔ تَزَاوَج: دو خاندانوں وغیرہ کا شادی بیاہ کے ذریعے آپس میں مل جانا۔ ازدواج ضریبی: ڈبل ٹیکس۔ مُتَزَوِّج: شادی شدہ۔ مُزْدَوِج: دگنا، دہرا۔ ڈبل۔

زاح: زَاحَ - زُوْحًا و زَوَاحًا عن المکان: سے دور ہونا، ہٹ جانا، چلا جانا۔ وـتِ العِلّةُ: بیماری جاتی رہنا۔ وـزَوْحًا الابلَ: اونٹوں کو منتشر کرنا، اکٹھا کرنا (ضد) اَزَاحَ ہُ: کو اسکی جگہ سے ہٹانا، دور کرنا۔ ازاحَ اللّٰهُ العِلَلَ: اللہ تعالیٰ علتوں کو دور کریں۔ ازاح الامرَ: کام کا پورا کرنا کہتے ہیں۔ ازحت عِلّتَه فی ما احتاج الیه: میں نے اسکی ضرورت پوری کردی۔ اِنْزَاحَ: زائل ہونا، منتشر ہونا۔

زاد: زاد - زَوْدًا: زادِ راہ تیار کرنا اور لینا۔ زَوَّدَ و ازادہٗ: کو زادِ راہ دینا۔ تَزَوَّدَ: زادِ راہ لینا کہتے ہیں۔ تزوّد من الامیر کتاباً الی عامله: اس نے امیر سے اس کے گورنر کے نام خط لیکر اسے پہنچایا تاکہ اس سے مدد حاصل کرے۔ تَزَوَّدَ منی طعنةً بین اُذنیه: اس نے اپنے دونوں کانوں کے درمیان مجھ سے نیزہ کا زخم کھایا۔ اِزْدَادَ و اِسْتَزَاد الرجُلُ: زادِ راہ طلب کرنا، توشہ، سفرخرچ طلب کرنا۔ الزاد جمع اَزْوِدَة و اَزْوَاد: توشہ سفر، زادِ راہ، سفرخرچ۔ المِزْوَد والمَزَاد والمَزَادة جمع مَزَاوِد: توشہ دان۔ نُفاضةُ المزاوِد: توشہ دان میں بچے کچھے ریزے جن کو مسافر آکر جھاڑ دیتا ہے۔ یہ خست کے لئے ضرب المثل ہے۔

زَوَّدَہ ب: کو اشیائے خوردنی فراہم کرنا ــــ ہ ہ: کو اشیائے خوردنی و اشیائے ضرورت فراہم کرنا ــــ ہ و ہ ب: کو سے لیس کرنا، (ساز و سامان) مہیا کرنا ــ ہ ب: کو کوئی (خوبی) عطا کرنا ــ ہ ب: کو سے مالا مال کرنا۔ اَزْوِدَہ: کو اشیائے خوردنی فراہم کرنا۔ تَزَوَّدَ: اشیائے خوردنی مہیا کیا جانا۔ سفر پر اشیائے خوردنی ساتھ لے جانا ــ من: سے معلوم کرنا ــ ب: اپنے آپ کو سے آراستہ کرنا، لیس کرنا، کچھ لینا۔ زاد جمع اَزواد و اَزْوِدَة: اشیائے خوردنی، رسد، ذخیرہ، سٹور۔ زَوَاد: اشیائے خوردنی۔ زُوَّادَة: اشیائے خوردنی۔ مِزْوَد جمع مَزَاوِد و مَزَائد: تھیلا (چیزیں رکھنے کا)۔ مَزَادَة: ایضاً۔ تَزْوِید ب: کی فراہمی، کی بہم رسائی، سے لیس ہونا، کی فراہمی ــ: (جہازوں میں) ملاح رکھنا۔ مُزَوِّد جمع مُزَوِّدُون: ٹھیکے دار، سپلائر، مہیا کرنے والا، فراہم کرنے والا، اشیائے خوردنی بہم پہنچانے والا ٹھیکیدار، کھانے پینے کا سامان بہم پہنچانے والا، بہم رساں خانساماں، ہوٹل کا مالک، یا ناظم۔ مُزَوَّد ب: سے لیس، فرنیچر لگا۔ کچھ مہیا یا فراہم کیا ہوا، سے مسلح، سے متعلق یا مربوط، کے ہمراہ، کی معیت میں۔

زار: ۱ـزَارَ - زِیارةً و مَزَاراً و زَوْراً و زُوَاراً و زُوَارَةً ہٗ: کے پاس ملنے کے لئے جانا۔ زائر جمع زائرون و زُوَّر و زُوَّار م زائرة جمع زُوَّر زُوْر وزائرات: ایسا شخص (جو ملاقات کے لئے آیا ہو) زَوَّرَ الزائرَ: ملاقاتی کی تکریم کرنا، آپ کہتے ہیں۔ زُرْتُهم فزوّرونی: میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے میری عزت افزائی کی۔ وـالقومُ صاحبَهُم: سے بھلائی کرنا، کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آنا۔ ازارہٗ: کو ملنے جانے پر اُکسانا۔ وـہٗ الشیءَ: چیز اس کے پاس لے جانا۔ اِزْدَارہٗ: زارہ کا معنی دیتا ہے۔ تَزَاوَرَ القومُ: ایک دوسرے کی ملاقات کو جانا کہتے ہیں۔ هُمْ یتزاورون: اوبینهم تزاوُرٌ: (وہ ایک دوسرے کو ملنے کے لئے جاتے رہتے ہیں، آپس میں ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں)۔ اِسْتَزَارہٗ: کو ملاقات کے لئے کہنا۔ الزَوْر: ملاقاتی (مفرد مثنیٰ اور جمع سب کے لئے) کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ زَوْرٌ و رجال زَوْرٌ و نساء زَوْرٌ۔ الزَوْرة: زار کا اسم مرۃ ایک دفعہ ملاقات کے لئے جانا۔ الزَوَّار و الزَوُور: کثرت سے (ملاقات) کے لئے جانے والا۔ الزِیْر جمع اَزْوَار و ازیار وزِیَرة: بدنیت کے بغیر عورتوں سے بات چیت کرنے کا دلدادہ۔ عادت۔ الزِیرة: ملاقات کی شکل، کہتے ہیں۔ زرته زِیْرَةَ الحبِّ: میں نے محبت میں اس سے ملاقات کی۔ المزار (مص) جمع مزارات: زیارت، ملاقات، زیارت کی جگہ، اولیاء کی زیارت گاہیں۔

۲ـزَارَ - زِوَاراً الفرسَ: گھوڑے کو زبار سے باندھنا۔ زَوِرَ - زَوَرًا: ٹیڑھے سینے والا ہونا، مائل ہونا۔ زَوَّرَ عنه: سے پھرنا۔ وـالشیءَ: چیز کو اچھا کرنا، ٹھیک کرنا، درست کرنا، سیدھا کرنا۔ تَزَاوَرَ و اِزْوَرَّ وازوارَ عنه: سے علیحدہ ہونا، منحرف ہونا۔ الزُوْر: طاقت (کہتے ہیں ماله زُوْرٌ ولا صَیُّورٌ: اس کے پاس نہ تو قوت ہے نہ ہی لوٹنے کی جگہ) عقل، رائی، آقا، رہنما، سردار۔ الزَوْر: سینہ کا درمیان سے بالائی حصہ یا سینہ کی ہڈیوں کے جوڑ کی جگہ۔ فرسٌ عریضُ الزَوْر: چوڑے سینے والا گھوڑا (کہتے ہیں۔ اَلقی زورَہ: بمعنی اقامت کرنا) قوت ارادی، عقل، سردار، رہنما۔ الزَوْرة: شدت و صلابت کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھنے والی اونٹنی، زوری۔ الزَوَر (مص): سینہ کے بالائی حصہ کا ٹیڑھا پن یا اس کے ایک جانب کا دوسرے پر ہونا، جھکاؤ۔ الزِوَر: سفروں کے لئے تیار کردہ اونٹ، سخت رفتار، سخت۔ وـالزِوِیر والزُوَیر: قوم کا سردار اور رئیس۔ الاَزْوَر م زَوْراء جمع زُوْر: بیچ سے پتلے سینہ والا، ٹیڑھے سینے والا، مائل، جھکاؤ، ترچھی نظر سے دیکھنے والا کہتے ہیں۔ قوم عن مواقف الحق زُوْرٌ: حق کے موقفوں سے منحرف قوم۔ الزَوْراء: کمان، گہرا کنواں، بغداد کا شہر، بغداد کا دجلہ۔ کلمةٌ زَوْراءُ: پوچ اور لچر بات۔ منارةٌ زَوْراء: کج منارہ۔ فلاةٌ زَوْراء: دور کا جنگل۔ الزِّیر جمع اَزْوَار و اَزْیَار و زِیَرة: باریک تانت۔ الزِّیَر: غضبناک۔ الزِیَار: دو لکڑیاں جس سے سالوتری گھوڑے کے ہونٹوں کو دبا کر اسے قابو کرتا ہے اور اپنا کام سرانجام دیتا ہے۔ اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں: زَیَّرَ الفرسَ۔ و ـ والزِوار جمع اَزْوِرہ: ہر اصلاح اور بچاؤ کی چیز، سینہ بند اور تنگ کے درمیان کی رسی۔

۳ـزَوَّرَ: جھوٹ کو مزین کرنا، آراستہ کرنا۔ وـالکلامَ: کلام کا ابطال کرنا، اسے جھوٹ سے منسوب کرنا۔ وـالشهادةَ: گواہی کو جھٹلانا۔ وـنفسَهُ: پر جھوٹ کی علامت لگانا۔ وـالشیءَ لنفسه: کسی شئے کو اچھا سمجھ کر اپنے لئے مخصوص کر لینا۔ وـعلیه: کسی پر جھوٹ باندھنا۔ وـفلاناً علی نفسه: فلاں پر تہمت باندھنا۔ تَزَوَّرَ: جھوٹ بولنا۔ وـالشیءَ: کو پسند کر کے اپنے لئے خاص کر لینا۔ الزُوْر: جھوٹ، باطل، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، گانے کی مجلس، کھانے کا مزہ اور اسکی خوشبو۔ الزَوْر: خیالی شکل جو رات میں دکھائی دے۔

۴ـالزُّوْر: کپڑے کی ملائمت اور صفائی۔ الزَارَة: بانس وغیرہ کی پانی رکھنے والی جھاڑی اونٹوں کا ریوڑ۔ وـ والزَاوِرَة والزَاوُورَة: پوٹا۔ الزَاوَرَة: پوٹا۔ زاوَرَة

- القطاة: بھت تیتر کا وہ حصہ جس میں وہ اپنے چوزوں کے لئے پانی لے جائے- الزوراء: پیالہ، چاندی کا برتن- الزئبر جمع أزوار و أزيار و زيرة: کتان (زیرۃ کتان کا ایک ٹکڑا) بڑا مٹکا جو زمین میں گڑھا کھود کر رکھا جا سکے۔

۵- الزورق جمع زوارق: چھوٹی کشتی، ڈونگا۔

○ زار- زورًا و زيارةً ہ: سے ملاقات کو جانا یا آنا، کو دکھ پہنچانا- زوّر ہ: کو جعلی بنانا، گھڑنا، میں جعلسازی کرنا، جعلی (سکہ یا دستاویز) بنانا، نقل کرنا، تزاور: ملاقاتوں کا تبادلہ کرنا- ایک دوسرے سے ملنا- ازورّ عن: سے علیحدہ رہنا، میل جول نہ رکھنا، کا مخالف ہونا- ازوّر بہ عن: کو سے سرگشتہ کرنا- استزارہ: کسی کی ملاقات کی خواہش کرنا- زَوْر: گلا یا سینہ کا بالائی حصہ آلام الزوَر: دکھتا گلا- زوَر: ڈھلان، ڈھال- ٹیڑھا پن، جعلسازی- غداری، عیاری، بھینگا پن- زورۃ جمع زورات: ملاقات- زیارۃ جمع زیارات: ملاقات، ڈاکٹر وغیرہ کا مریض کو دیکھنے آنا- ازورم زوراء جمع زُور: ڈھلوان، ترچھا، خمیدہ، کج، بھینگا- مزار جمع مزارات: مزار، آستانہ، درگاہ، مقبرہ- تزویر: جعل سازی، غلط بیانی- تزویر فی السندات: دستاویزات میں جعلسازی- ازورار: دور رہنا، تنفر، بیزاری، ناپسندیدگی، زائر جمع زائرون و زوّار مونث زائرۃ جمع زائرات و زُوّر: ملاقاتی، مہمان- مزور: جہاں کوئی گیا ہو، جس سے کوئی ملا ہو- مُزوّر: جعلی، جعل سازی کیا ہوا، بناوٹی، کھوٹا، دھوکہ سے حاصل کیا ہوا، ملمع کر کے پیش کیا ہوا۔

○ زَوْرق جمع زوارق: کشتی، چپوؤں والی کشتی، ہلکی کشتی- بخاری: دخانی کشتی- الصید: مچھلیاں پکڑنے کی کشتی- النجاۃ: بچاؤ کشتی، زورق ناسف: تارپیڈو کشتی۔

زوس: الزوستیرا (ن): ایک پودا جو بحر اوقیانوس اور بحر متوسط کے ساحلوں پر ہوتا ہے اور مچھلیوں کی غذا کے لئے مفید ہے۔

زوش: الزوش: کمینہ غلام- الأزوش: متکبر۔

زوط: زوّط: بڑا لقمہ بنانا- الازوط: جس کی ایک آنکھ دوسری سے تنگ ہو یا آنکھ کی سیاہی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہو۔

زاغ: ۱- زاغ- زوغًا فلانًا: کو آگے کی طرف دھکیلنا، روکنا- و- الشیءَ: (کو) موڑنا- و- الدابّۃَ: جانور کی لگام کو ہلا کر اسے تیز چلانا۔

۲- زاغ- زوغًا لہ من البطیخۃ زوغۃً: کسی کے لئے خربوزہ کی ایک قاش تراشنا- و- تزوّغ اللحمُ: گوشت کا پٹھے سے اتر جانا- زوّغ الإبلَ: اونٹوں کو منتشر کرنا، پراگندہ کرنا- الزوغۃ جمع زُوَغ: لوگوں کا ایک گروہ- و- من البطیخۃ ونحوھا: خربوزہ وغیرہ کی ایک قاش یا پھانک- و- من النبت: گھاس کا خشک ہونے والا قطعہ۔

۳- الزاغۃ: جنگ پر جانے والا پہلا فوجی دستہ- الزوع والزوَع: (ح) مکڑی۔

زاغ: ۱- زاغ- زوغًا الشیءَ: کو جھکانا- الناقۃَ: اونٹنی کو نکیل سے کھینچنا- و- زوغًا و زوغانًا: جھکنا، ظلم کرنا- و- البصرُ: نگاہ کا پھرنا اور مضطرب ہونا- أزاغ ازاغۃً ہ: کو جھکانا۔

۲- الزاغ: (ح) کوے سے چھوٹا اس کا ہم شکل پرندہ۔

○ زاغ- زوغًا و زوغانًا عن: سے ہٹنا، تجاوز کرنا، منحرف ہونا- منحرف ہونا، سچائی سے انحراف کرنا، دھوکا دینا- تزاوغ: سیدھے راستہ سے ہٹ جانا۔

زاف: ۱- زاف- زوفان الحمامۃُ: کبوتر کا بازو اور دم پھیلا کر ان کو زمین پر کھینچنا- الطائرُ فی الھواء: پرندہ کا ہوا میں چکر کاٹنا- و- الرجلُ: آدمی کا اعضاء ڈھیلے کر کے چلنا- الماءُ: پانی پر بلبلے اٹھنا- وتزاوف: ورزش کرنا- الزُّووف: چلنے میں ڈھیلا پن۔

۲- الزوفی والزوفاء: (ن) باریک تنے اور صعتر جیسے پتے والی ایک نبات بلغم کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔

زوق: زوّق الکلامَ: کلام کو حسین بنانا- و- البیتَ: گھر پر نقش و نگار کرنا- و- الدرھمَ: درہم پر پارہ کا ملمع کرنا- الزواق: لونڈی کی زینت- الزوقۃ: گھروں کو زینت اور نقش و نگار سے آراستہ کرنے والے۔

الزاووق والزاؤوق: پارہ۔

○ زوّق ہ: کو سجانا، آراستہ کرنا، کی آرائش کرنا، کی سج دھج کرنا، کو سنوارنا، سنگارنا، کی زیبائش کرنا، کی ذہن میں تصویر لانا یا قائم کرنا- زواق: سجاوٹ، زیبائش، سج دھج، آرائش، سنگھار، تزئین، بھڑکیلا، میک اپ، سنگار کا سامان، مزوّق: سجایا ہوا، آراستہ کیا ہوا، آرائش کیا ہوا- رنگین، مرصع (تقریر) بھڑکیلا، زرق برق۔

زاک: زاک- زوکًا و زوکانًا: شانوں کو حرکت دینا اور ٹانگوں کو بیچ سے کھولنا یا ٹانگیں، چوڑی کرنا، مغرورانہ چال سے چلنا- تزاوک تزاوکًا: شرم وحیا کرنا- الزوک: کوے کی چال۔

زال: ۱- زال- زوالًا و زوولًا و زوالانًا و زُوولًا و زویلًا: ہلاک ہونا، جاتا رہنا، ہٹنا، پھر جانا زال عنہ ملکہ: اس کا ملک اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا، نکل گیا- و- ت الشمسُ: سورج کا ڈھلنا- و- ت الخیلُ بر کبانھا: گھوڑوں کا اپنے سواروں کو لیکر اٹھنا اور اسی سے ہے- زِیل بنعشہ: اسکی نعش اٹھائی گئی- کہا جاتا ہے- زال زائل الظلّ: دوپہر ہوگئی- زال یزیل زویلہُ و زوالہُ: پہلو کا ڈر سے کانپنا- و- زوّل: حرکت کرنا- اری النجوم تزول ولا تغیب: میں ستاروں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں فلانٌ یزولُ فی الناس: فلاں شخص لوگوں میں بہت گھومتا پھرتا ہے- اور کسی جگہ ٹکتا نہیں- زوّل الشیءَ: کسی چیز کو لانا- و- أزال و ازدال ہُ: کو ہٹانا، ایک طرف کرنا- أزال اللہُ زوالہُ: خدا اسے ہلاک کرے- تزوّل الشیءَ: کسی چیز کو لانا- تزاول القومُ: باہم کوشش کرنا- انزال عنہ: سے جدا ہونا- ازول ازولالًا الشیءُ: زائل ہونا، جاتا رہنا۔

الزوْلُ جمع أزوال: شخص، بہادر، بلا- الزوال: (مص) سورج کا ڈھلنا کہتے ہیں- الساعۃ الرابعۃ زوالیّہ: یعنی ظہر کے بعد چار بجے ہیں- الزوّال: بہت حرکت کرنے والا- الزائل (فا) کہتے ہیں- لیل زائل النجوم: لمبی رات- الزائلۃ جمع زوائل: زائل کا مونث، ہر زندہ چیز، ہر متحرک چیز- الزوائل: ستارے، شکار- الزویل (مص) حرکت، طرف، جانب- المزولۃ جمع مزاول: دھوپ گھڑی۔

۲- زاول ہُ: کی کوشش کرنا- کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، تلاش کرنا۔

۳- تزوّل الغلامُ: لڑکے کا بہت ظریف ہونا- الزوْل جمع أزوال: سبک زیرک خوش طبع جس کی دانائی کو پسند کیا جاتا ہے، نئی، تعجب کہتے ہیں- سیر زولٌ: عجیب سیر- شتوۃ زولۃٌ: عجیب سردی- الزوائل: عورتیں۔

○ زول و زیل زال- زوالًا عن/ من: سے دور چلے جانا، سے پیچھے ہٹ جانا، کسی شخص یا چیز کو چھوڑ بیٹھنا، چھوڑ جانا، چھوڑ دینا- غائب ہو جانا، نظر سے اوجھل ہو جانا، دفعۃً غائب ہو جانا، فضا میں تحلیل ہو جانا، گھٹنا، کم ہونا، ساکن ہونا، ختم ہو جانا، ڈوبنا- زال- زیلًا: ختم ہونا- زال منہ الغضب: اس کا طیش کم ہو گیا۔

زال عن الوجود: معدوم ہو جانا- لم یزل، مازال، لایزال: ابھی تک، تب تک- مازلت افعلہ: میں ابھی تک یہ کر رہا ہوں- مازال قائمًا: وہ ابھی تک کھڑا ہے- مازال فی: وہ ابھی تک کے اندر

ہے- لایزال فی حاجة الیه : اسے ابھی تک اس کی ضرورت ہے- لایزال علی ذِکرِ منه : وہ ابھی تک اسے یاد ہے- زَوَّلَ ہ : کو ہٹانا، خارج کرنا، نکالنا- زَیَّــــلَ ہ : کو علیحدہ کرنا، تباہ کرنا، منتشر کرنا، بکھیرنا- زَاوَلَ ہ : کو کرتے رہنا- خود کو کی نذر کرنا، کیلئے وقف یا مخصوص کرنا، کو تن دہی سے کرنا- زَایَلَ ہ و ہ : سے الگ ہونا، رخصت ہونا، کو چھوڑ دینا، ــــ بین : کو جدا کرنا- زَایَلَ الدارَ : گھر سے نکل جانا، گھر چھوڑ جانا- اَزَالَ ہ : کو رکوانا، غائب کرانا، یا ہوا میں تحلیل کرانا، کو ہٹانا، خارج کرنا، ختم کرنا، کو ایک ہی ضرب میں ختم کرنا- تَزَایَلَ : جدا ہونا، بے ربط ہونا، ختم ہونا، رکنا- زَوْل جمع اَزْوَال : شخص، مشہور انسان، رات کا سایہ، بھوت، پیکر خیالی، روح، وہمی صورت- زَوَال : خاتمہ، گزرنا، مرور، پوشیدگی، غائب ہو جانا، معدوم ہو جانا، انقطاع، اختتام، غروب (آفتاب)، دوپہر- سریع الزوال : عارضی، جلد مرجھا جانے والا، جلد بھول جانے والا- بعدَ الزوال : سہ پہر یا تیسرے پہر میں- عندَ الزوال : دوپہر کے قریب، دوپہر کو- خط الزوال : خط نصف النہار- فی الساعة الرابعة زوالیة : ۴ بجے سہ پہر- زُوْلِیَة جمع زَوَالِی : گانٹھ دار کمبل- مِزْوَلَة جمع مَزَاوِل : دھوپ گھڑی- مُزَاوَلَة : (کچھ) کرتے رہنا، (کو) تندہی سے کرنا، محنتی مطالعہ، (کسی کام یا پیشہ کو) کرنا- اِزَلَة : کو ہٹانا، خارج کرنا، دور کرنا- زَائِل : عارضی، وقتی، ناپائیدار، مختصر مدت کا جلدی مرجھا جانے والا-

○ زَولوجیا : حیوانیات، علم الحیوانات- زولوجی : حیوانیاتی-

زام : ۱- زَامَ - زَوْمًا الرجلُ : مرنا-
۲- الزام : چوتھائی زام من النہار : دن کا چوتھائی حصہ- زامان من النہار : دن کا نصف- الزَامَة جمع زَامَات : جماعت، گروہ- الزُّوْم : عوام کے نزدیک کسی چیز کا نچوڑا ہوا عرق یا شیرہ (اس معنی کے لئے فصیح لفظ النُسْغ) وہ پانی جس سے کپڑا دھویا جائے- (فصیح الغُسَالة) الزَوِیْم : ہر جمع شدہ چیز-
۳- زَوْمَلَ الابلَ : اونٹوں کو ہانکنا- الزَوْمَلَة : لدے ہوئے گدھے کہتے ہیں- ھوا بن زَوْمَلَتِھا : وہ اس کا جاننے والا ہے-

○ زَام - زُوماً : (کتے کا) غرانا- زَوَّمَ : بڑبڑانا- زُوْم جمع اَزْوَام : رس، عرق-

زون : الزَوْن والزِوَن : پستہ قد- الزُوْن : پستہ قد، بت یا مندر- الزَوْنَة : زینت، عقلمند عورت- الزِوَان والزُوَان والزَوَان : گیہوں سے مشابہ ایک دانہ جو گیہوں میں پیدا ہوتا ہے اور خواب آور ہے-

زوی : ۱- زَوَی - زُوِیّاً وزَیًّا الشیءَ : کو اکٹھا کرنا، پر قبضہ کرنا- و- المالَ وغیرہَ : مال وغیرہ اکٹھا کرنا- زَوَّی الکلامَ : کلام کو اپنے دل میں تیار کرنا- تَزَوَّی : سکڑنا منقبض ہونا- اِنْزَوَی : منقبض ہونا- و- القومُ بعضھم الی بعض : قوم کا یکجا ہونا-
۲- زَوَی - زُوِیّاً وزَیًّا الشیءَ : کو ایک طرف ہٹانا، روکنا- و- ــــ عنه الشرَّ : سے برائی کو دور کرنا- ــــ عنه حقَّه : کسی کا حق روک لینا- و- الدھرُ القومَ : زمانے کا قوم کو بربادی کے گھاٹ اتارنا- الزاویة من البیت جمع زَوَایَا : گھر کا کونہ، معماروں اور بڑھیوں کی اصطلاح میں دو مستقیم ضلعوں کا ایک پیمانہ جن کے اتصال سے زاویہ قائمہ پیدا ہوتا ہے- (زاویہ کی مختلف اقسام ہیں-)-

○ زَوَی - زویا ہ : (ابرو) سکیڑنا، پر شکن ڈالنا، بھویں سکیڑنا- ہ : کو ہٹانا، چھپانا- زوی مابین عینیه : اس نے اپنے بھویں سکیڑے- نے (غصہ میں) تیوری چڑھائی- زَوَّی وتَزَوَّی : کونے میں ہٹ کر رہ جانا- گوشہ نشین ہونا، عزلت گزین ہونا- اِنْزَوَی : ایضاً نیز الگ تھلگ رہنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا- انزوی فی جِلْدِهِ : شرم وغیرہ سے گڑ جانا- اِنْزِوَاء : تنہائی، خلوت، گوشہ نشینی، عزلت گزینی، علیحدگی- زَاوِیَة جمع زَوَایَا : کونا، گوشہ، زاویہ، چھوٹی مسجد، عبادت کا کمرہ، ایک مسلمان ولی کی قبر پر بنی ہوئی گنبد والی چھوٹی مسجد، تکیہ- حجر الزاویة : کونے کا پتھر- مِن زوایا مختلفة : مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے- مُنْزَوٍ : الگ تھلگ، گوشہ نشینی، یا عزلت گزینی کا، دور افتادہ، دور، غیر واضح، مبہم، دھندلا سا-

زیب : اِزْرَأَبَّ لحمُهُ : گوشت کا یکجا ہو کر ایک تہہ بہ تہہ ڈھیر بن جانا- الزِیَب : ہوا کی شدت- رجلٌ زَیْبٌ وازْیَبٌ : مضبوط آدمی- الاَزْیَب : جنوبی ہوا، بہت پانی- (ح) سیہ، خوشی، چستی، چست، خوش، ہشاش بشاش، پستہ قدم چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے والا، کمینہ، منہ بولا بیٹا، اجنبی، ناپسندیدہ بات، مصیبت، دشمنی- الاِزْیَب : شدید بخیل-
۲- الزِیْبَق : پارہ-

زات : زَاتَ - زَیْتاً وزَیَّتَ الطعامَ : کھانے میں تیل ڈالنا- و- الشیءَ : چیز کو تیل سے تر کرنا، کو تیل لگانا- و- القومَ : قوم کو زیتون کا تیل کھلانا یا بطور توشہ زیتون کا تیل دینا- زَاتَ اِزَاتَةً : کے پاس بہت تیل ہونا- اِزْدَاتَ اِزْدِیَاتاً : روغن زیتون ملنا- اِسْتَزَاتَ : روغن زیتون مانگنا- الزَیْت : (مص) جمع زُیُوت : تیل، مختلف قسم کے نباتات وحیوانات سے نکلنے والے تیلوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے خواہ کھانے، روشنی کرنے یا خوشبو لگانے کے لئے استعمال ہوں- الزَیَّات : تیل فروش، تیلی- الزَیْتُون واحد زَیْتُونَة (ن) زیتون کا درخت، زیتون کا تیل، زیتون کا پھل- الزَیْتُونِیّ : زیتون کے رنگ کا- الزَیْتُونِیَّة : پودے جن کے پتے زیتون کے درخت کے پتوں جیسے ہوتے ہیں جنہیں باڑوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے- الزیتونیات : (ن) پودوں کا ایک خاندان جو تین قبائل پر مشتمل ہے- (۱) زیتونی (۲) مُرانی (۳) یاسمینی-
المَزِیت والمَزْیُوت : جس میں تیل ڈالا گیا ہو- المِزْیَتَة : تیل کی کپی جس کے ذریعے مشینوں کو تیل دیا جاتا ہے-

○ زَیَّتَ ہ : (مشین وغیرہ کو) تیل دینا، گریس لگانا، (کھانے میں) تیل ڈالنا- زیت حار : السی کا تیل- زیت الحوت : کاڈ مچھلی کا تیل- زیت الخروع : کیسٹر آئل- زیت السمك : کاڈ مچھلی کا تیل- زیت التشحیم : مشین کا تیل- زیت الاستصباح : ایندھن کا تیل، فیول آئل- زیت الغاز : مٹی کا تیل- زیتی : تیل کا- صورةٌ لوحةٌ زیتیة : آئل پینٹنگ- جبل الزیتون : فلسطین کے ایک پہاڑ کا نام- جامع الزیتونة : تیونس کی جامع مسجد اور یونیورسٹی- زیتونی : زیتون رنگ کا، تیونس کی جامع کا طالب علم جمع زیتونیون- مَزْیَتَه : تیل کی کپی- مُزَیَّت : جس کو تیل دیا گیا ہو-

زیج : الزیج جمع زِیْجَات و زِیَجَة : (ب) معماروں کا دھاگا جس سے وہ دیواروں کو برابر کرتے ہیں (فارسی لفظ) (فک) علم ہیئت میں اس جدول کا نام ہے جس سے سیاروں کی حرکات کا پتہ لگاتے ہیں-

زاح : زَاحَ - زَیْحاً و زُیُوحاً و زِیُوحاً و زَیَحَاناً : دور ہونا، چلے جانا- و- اللِثَامَ : نقاب کھولنا، ہٹانا- اَزَاحَ ہ : کو دور کرنا، لے جانا- اِنْزَاحَ انزیاحاً : دور ہونا، چلے جانا- الزَّیْحُ (ہ) : دیکھئے الانسحاب- الزَیَّاح : عیسائیوں کے ہاں ایک دینی تہوار جس میں مقدس چیزیں اٹھا کر لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں یا انہیں لیکر لوگوں میں گھومتے ہیں- اس سے فعل بنا کر کہا جاتا ہے : زَیَّحَ لایْقُونَةَ : عیسائی اولیاء کی تصویر لے کر لوگوں کو دکھاتے پھرنا- المَزَاج : خلوت کی جگہ، تنہائی کی جگہ-

○ زَاحَ - زَیْحًا و زیوحًا و زَیَحَانًا : دور جانا، چلے جانا،

رخصت ہونا، ترک کرنا۔ ــــ ازاحَ ہ: کو ہٹانا، دور کرنا، نکال دینا۔ ــــ ہ عن: سے پردہ، نقاب وغیرہ اٹھانا۔ ازاح اللثام عن: (کچھ) ظاہر کرنا، منظر عام پر لانا۔ ازاح الستار عن تمثال: یادگار (وغیرہ) کی نقاب کشائی کرنا۔ اِنزاحَ: چلے جانا، رخصت ہونا، ترک کرنا۔ (پردہ) اٹھایا جانا۔ زِیح جمع ازیاح (سیدھا) خط، زیّاح جمع زیاحات: دینی جلوس۔ ازاحة: ہٹانا، دور کرنا، خاتمہ کرنا۔ ازاحة الستار: (یادگار کی) نقاب کشائی۔

زاخ: زَاخَ ـِ زَیخًا و زَیَخَانًا: ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، الگ ہونا۔ ازاخَ ہُ: کو علیحدہ کرنا۔ تَزَیَّخَ: ذلیل ہونا۔ فروتنی کرنا۔

زاد: ا۔زَادَ ـِ زَیْدًا و زِیدًا و زَیَدًا و زِیَادَةً و مَزِیْدًا و زَیْدَانًا: بڑھنا، زیادہ ہونا۔ و۔الشیٔ: کو بڑھانا۔ و۔فلانٌ: زیادہ دینا۔ زَیَّدَہُ: کو بڑھانا۔ زَایَدَہُ: بڑھنے میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔ تزَیَّدَ السعرُ: بھاؤ کا بڑھنا، اونچا ہونا، نرخ کا گراں ہونا۔ و۔الرجلُ فی حدیثہ: بات کو بڑھا کر بیان کرنا۔ فی الشیٔ: کو بڑھانے میں تکلف کرنا۔ تَزَایَدَ فی حدیثہ: بات کو بڑھا کر بیان کرنا۔ تزایدوا فی ثمن السلعة: ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا یا بولنا۔ ازدادَ: زادَ (لازم و متعدی) کے معنی میں۔ زیادہ ہونا یا کرنا، زیادہ طلب کرنا۔ اِستَزَادَہُ: سے زیادہ طلب کرنا۔ الزائدم زَائِدة جمع زَوَائِد (فا)۔ زائدة الکبد (ع ا): زائدہ جگر۔ الزائدة الدُّودِیَة: (طب) زائدہ معویہ۔ الزوائد من الاسنان: کچلیوں کے قریب کے دانت۔ الزِیادة (مص) جمع زِیادات و زَیَائد: بڑھائی یا بڑھی ہوئی چیز۔ الزَیْد و الزِیْد: زیادہ کہا جاتا ہے۔ ھم زَیْدٌ علی مائة: یعنی وہ سو سے زیادہ ہیں۔ التزاید: تدریجی اضافہ، بڑھاؤ۔ المَزِید: (مص و مفع) زیادتی، زیادہ کہا جاتا ہے۔ لامَزِیدَ علی ھذا الامر: یعنی اس پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ المزادة جمع مَزَادٌ و مزاید: چمڑوں کے ٹکڑوں سے پانی رکھنے کے لئے تیار کردہ تھیلا یا ڈولچی۔ المُزَایَدة او البیع بالمَزاد العلنی: نیلامی نیلام عام۔

۲۔استزادہُ: کو کم سمجھنا اور شکایت کرنا۔

○ زادَ ــــ زِیادةً: بڑا یا زیادہ ہو جانا، بڑھنا، زیادہ ہونا، مرکب ہونا۔ ــــ من یا علی: سے زیادہ ہونا۔ ــــ علی عن ب: رقم وغیرہ کا سے بقدر زیادہ ہونا۔ ــــ علی: تعداد یا رقم سے متجاوز ہونا۔ ــــ ہ: کو زیادہ کرنا، مرکب کرنا، بڑھانا، بڑا کرنا۔ ــــ ہ من و ہ الی: کو سے تک بڑھانا، میں تک اضافہ کرنا۔ ــــ ہ علی: کو میں شامل کرنا۔ ــــ علی: میں اضافہ کرنا، کو بڑھانا، بڑا کرنا۔ ــــ من / فی: کو پھیلانا، لمبا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا، بڑھانا، ترقی دینا، آگے بڑھانا۔ ــــ ہ ہ: کو کا زیادہ دینا۔ لایزید علی: یہ سے زیادہ نہیں، یہ صرف ...... ہے۔ زاد قائلاً: اس نے مزید کہا۔ زِدْ علی ذلك ان: اس میں یہ بڑھا لیجئے کہ۔ مزید برآں۔ زادہ علماً: کو اس کے متعلق مزید بتانا، کو مزید اطلاع فراہم کرنا۔ زَیَّدَ: کو زیادہ کرنا، بڑھانا، مرکب کرنا، بڑا کرنا، میں اضافہ کرنا۔ زَایَدَہ: نیلام میں کسی سے زیادہ بولی دینا، سے بڑھ کر بولی دینا۔ تَزَیَّدَ: زیادہ ہونا، (بھاؤ) کا چڑھنا، (کچھ بتانے میں) اضافے کرنا، یا مزید نمک مرچ لگانا، مبالغہ آرائی کرنا، لفاظی کرنا، باتونی ہونا۔ تزید من العلم، من المعرفة: اضافی علم حاصل کرنا، اپنا علم بڑھانا۔ تَزَایَدَ: ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا، بتدریج زیادہ ہونا، زیادہ بڑھنا، شدت اختیار کرنا۔ ــــ من: کو بڑھاتے چلے جانا۔ اِزداد: بڑھنا، زیادہ ہونا، مرکب ہونا۔ ازدادَ بُکاءً: وہ روئے چلا گیا۔ استزدھا: کا مزید مطالبہ کرنا، کچھ مزید طلب کرنا، اپنے مطالبے بڑھاتے جانا، زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ ــــ ہ: زیادہ کی تمنا کرنا، کی وسعت و توسیع کے لئے کام کرنا۔ استزادہ: سے کوئی چیز اور مانگنا۔ الزَیْدِیة: یمن میں آزاد دولت مشترکہ بنانے والا شیعی فرقہ۔ الزُیُّود: زیدی فرقہ کے پیرکار۔ زِیَادَة: زیادتی، اضافہ، ترقی، بڑھنا، بڑھوتری، نشوونما، زائد، زیادہ، (بھاؤ وغیرہ) چڑھانا، بڑھانا، بلند کرنا، شدت اختیار کرنا، پیدا کرنا، فالتو تنخواہ، الاونس۔ زیادةً: مزید برآں علاوہ ازیں۔ زیادةً عَن: سے زیادہ، کے علاوہ، سے قطع نظر۔ حَمَلَہ زیادةً عن تحملہ: اس نے اس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ لادا۔ زیادةً علی ذلك: مزید برآں، علاوہ ازیں۔ زیادة المَوالِید: پیدائشوں کی بے اعتدالی۔ لِزیادةِ الابضاح: مزید توضیح کے لئے مزید وضاحت کے لئے۔ ازیَد: زیادہ فزوں از حد، اونچا تر، عظیم تر، زیادہ بڑا۔ مَزَاد جمع مَزَادات: نیلام، نیلامی، نیلام عام۔ مَزِید علی: سے زیادہ۔ ــــ: ضرورت سے زیادہ، بہت کثرت، اونچا درجہ، بڑی حد، انتہائی زیادہ سے زیادہ، حد سے زیادہ، بلند ترین، عظیم ترین، اعلیٰ، بہترین، اضافہ شدہ۔ بمزید الشکر: بہت بہت شکریہ کے ساتھ۔ بمزید الاسف: انتہائی افسوس کے ساتھ۔ بمزید الارتیاح: انتہائی خوشی (اطمینان یا تسلی) کے ساتھ۔ لیس لہ من مزید: اس پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا، کوئی بازی نہیں لے جا سکتا۔ مُزَایَدَة جمع مُزَایدات: نیلام، نیلام عام، نیلامی۔ تَزَیُّد: (میں) مبالغہ، اپنے ہی اضافے یا حاشیہ آرائی، بے سروپا باتیں، رام کہانی۔ تَزَایُد: (تدریجی) اضافہ، زیادتی، ترقی، بڑھوتری، نشوونما، افزائش۔ ازدیاد: اضافہ، افزائش، نشوونما، چڑھائی، اونچا ہونا، شدت اختیار کرنا۔ اِستِزَادَة: مزید کے لئے جدوجہد، اضافہ، توسیع، پھیلاؤ کے لئے لگاتار کام کرنا، مزید کی خواہش یا طلبی۔ لم یبْقَ استزادة لمستزید: اس کے بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اب کوئی بات ایسی نہیں رہ گئی جس کا اضافہ کیا جا سکے۔ زائد عن: سے زیادہ۔ زائد عن الحاجة: ضرورت سے زیادہ، فالتو۔ زائِدَة جمع زَوَائد: امعائے زائدہ۔ زَائِدَة مِعَوِیَة اور زَائِدَة دُودِیَة: زائدہ دودیہ Vermi appendix۔ مُزَایِد جمع مُزایدون: بولی دینے والا، بڑھ کر بولی دینے والا۔ مُتَزَایِد: ثابت قدمی سے بڑھنے والا، اتار چڑھاؤ والا۔

زیر: زیر: دیکھو زور۔

زیز: ا۔الزِیز جمع زیزان (ح) ایک قسم کا کیڑا جو ریز ریز کی آواز نکالتا ہے اور درختوں پر ملتا ہے۔ الزِیزَی والزَیزَاء والزِیزَاء والزازِیة: جمع الزیازِی: چھوٹا ٹیلا یا کرخت زمین پر یا اس کے اطراف۔ الزِیزِیات (ح): حشرات الارض کی ایک صنف۔

۲۔الزَیزَفُونُ (ن): ایک قسم کا پودا۔

زاط: زَاطَ ـِ زَیطًا و زِیاطًا: چیخنا اور بہت جھگڑنا۔ زیّاط: چیخنے اور بہت جھگڑنے والا۔

زاغ: ا۔زَاغَ ـِ زَیغًا و زَیَغَانًا و زَیغُوغَةً: جھکنا، ٹیڑھا ہونا۔ و۔البصرُ: نگاہ کا جھکنا۔ زَیَّغَہُ: کو ٹیڑھا کرنا، کی کجی کو درست کرنا۔ ازَاغَ ہُ عن الطریق: کو راستہ سے بھٹکانا، بدراہ کرنا۔ ــــ الرجلَ: کو کجی میں ڈالنا۔ تَزَایَغَ: مائل ہونا۔ الزَائِغ جمع زاغة و زائغون: فا۔ الزَیغ: (مص) حق سے انحراف۔ شک۔ الزُیوغ: جھکاؤ، میلان۔

۲۔تَزَیَّغَ: آراستہ ہونا، مزین ہونا، بناؤ سنگھار کرنا۔

۳۔الزَاغ جمع زِغَان (ح): چھوٹا کوا، جس کے پیٹ اور پیٹھ پر کچھ سفید بال ہوتے ہیں یہ گندگی خور نہیں ہوتا۔ اس کی ایک قسم جو الزاغ الجیفی کہلاتی ہے۔ جو مردار خور ہے۔

○ زاغ ــــ زَیغًا و زَیَغَانًا: ایک طرف ہو جانا۔ ــــ عن:

سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، سے دور ہونا، سے منہ موڑ لینا۔ــــ (آنکھوں کا) بھٹکنا۔أَزاغ ہ: کو منحرف کرنا۔ازاغ عنی بَصَرَہٗ: اس نے میرا دل توڑ دیا۔

زَیغ وزَیغان: انحراف، تجاوز۔زَیغ و سَداد: غلطی کرنا، ٹھیک کام کرنا، باطل وحق۔زائِغ: منحرف، مختلف، غلط، توڑ موڑ کر بیان کیا ہوا، شکل بگاڑا ہوا، غلط راستے پر ڈالا ہوا۔مصنوعی، نقلی۔نظراتٌ زائِغةٌ: بھٹکتی نظریں۔

زاف: ا۔زَافَ ۔زُیُوفاً۔تِ الدراھمُ علیه: کے درہم کھوٹے ہونا۔و۔زَیفاً الدراھمَ: کھوٹے درہم بنانا یا درہموں کو کھوٹا سمجھنا۔زَیَّفَ الدراھمَ: کھوٹے درہم بنانا۔و۔الرجلَ: کی تحقیر کرنا۔تَزَیَّفَ تِ الدراھمُ: درہم کھوٹے ہونا۔الزائف (فا) من الدراھم جمع زُیَّف و زُیُوف: کھوٹا درہم۔الزَّیْف: کھوٹاپن کہا جاتا ہے۔درهمٌ زَیفٌ: کھوٹا درہم۔

۲۔زاف۔ف زَیفاً الحائطَ: دیوار پھاندنا۔زَیَّفَ البناءُ: عمارت کا بلند ہونا۔الزَّیف جمع زِیَاف و اَزْیَاف وزُیُوف: دیوار کا چھجہ، کنگرہ۔

۳۔زافَ۔ زَیفاً و زَیَفَانًا: مٹک کر چلنا۔ــ العیرُ: ڈگمگاتے ہوئے تیز چلنا۔الزائِف (فا) جمع زُیَّف وزُیُوف: شیرالزَّیَّاف م زَیَّافة: مٹک کر چلنے والا، شیر۔

○ زافَ ــــ زَیفًا: نقلی ہونا، مصنوعی ہونا، جعلی ہونا۔زَیَّفَ ہ: (سکہ وغیرہ) جعلی بنانا، کو نقلی یا جعلی قرار دینا۔

زَیف: مصنوعی ہونا، غرور، تکبر، جمع زُیُوف: نقلی، مصنوعی، جعلی، کھوٹا۔ اَزیَف: زیادہ مصنوعی، زیادہ جعلی۔

تَزییف: جعلسازی، جعلی بنانا، کھوٹا بنانا۔زائف: جعلی گھڑا ہوا، کھوٹا، نقلی۔اَخبارٌ زائِفةٌ: جھوٹی خبریں۔

نقود زائفةٌ: کھوٹے سکے۔مُزَیِّف: جعلساز، جعلی سکے بنانے والا۔مُزَیَّف: جعلی، گھڑا ہوا، کھوٹا، نقلی۔

زیق: زَیَّقَ الثوبَ: کپڑے میں گوٹ لگانا۔تَزَیَّقَ تِ المرأةُ: عورت کا بنناسنورنا۔سنگھار کرنا، سرمہ لگانا۔الزیق: (ب) دیوار برابر کرنے کے لئے معمار کا دھاگا، کپڑے کی گوٹ۔

○ زَیَّقَ: چرچرانا، چوں چوں کرنا، چرمرانا، چڑچڑایا چیں چیں کرنا۔زیق جمع اَزیاق: کالر، گریبان۔(لباس کا) حاشیہ، گوٹ، مغزی، سنجاف۔

زاك: زاكَ ۔زَیَکانًا: ناز ونخرہ سے چلنا۔الزیك: چھوٹے چھوٹے جواہر جو ایک بڑے جوہر کے گردا گرد جڑے ہوئے ہوں۔

زال: ا۔زالَ ۔زَیلاً ہٗ عن مکانه: کو اس کی جگہ سے ہٹانا۔مازلتُ افعلُ: میں کرتا رہا۔مازلتُ بزیدٍ و مازلتُ زَیدًا حتی فعَلَ: میں زید کے ساتھ لگا رہا حتی کہ اس سے نے کر دیا۔زلتُ افعل بمعنی مازلت افعل حرف نفی کو پوشیدہ سمجھتے ہوئے آتا ہے لیکن بہت کم۔زَیَّلَ ہٗ: کو متفرق کرنا۔زایَلَہٗ: باہم دگر جدا ہونا۔أزالَ إزالةً و ازالاً ہٗ عن مکانه: کو اسکی جگہ سے ہٹانا۔تَزَیَّلُوا و تزایلوا: متفرق ہونا، جدا ہونا۔ــ عنه: سے شرمانا کہا جاتا ہے۔انا اتزایل عنك فلا اتجاسر علیك: میں تمہارے سامنے شرماتا ہوں۔الزَّیَل: دورانوں کے درمیان کا فاصلہ۔الأزیَل: دونوں کے درمیان فاصلہ والا۔

۲۔رجلٌ مِزیَل و مِزیَال: خوش طبع، ہنرمند ذہین۔

زام: زامَ ۔زَیمًا لفلان فاسکته: کو ایک لفظ بول کر خاموش کر دینا۔تزیمت الخیل وغیرُها: گھوڑوں وغیرہ کا متفرق ہونا۔و۔تَزَیَّمَ اللحمُ: گوشت کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔گٹھا ہوا ہونا۔(ضد) الزِیمَة جمع زِیَم: گوشت وغیرہ کا ٹکڑا۔

زان: ا۔زانَ ۔زَیناً ہٗ: کو زینت دینا۔و۔الشیءَ: کو خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا۔زَیَّنَ تزیینًا و أزانَ ازانةً و أزیَنَ اریانًا ہٗ: کو خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا۔تَزَیَّنَ تَزَیُّنًا و ازّیَنَ ازّیّانًا و ازدانَ ازدیانًا وازّیَنَ إذینانًا وازبانَّ ازّیینانًا: آراستہ ہونا، مزین ہونا۔الزان: سفیدے کی قسم کا درخت۔امرأةٌ زائنٌ: سنوری ہوئی عورت۔الزَّیْن (مص) جمع ازیان: آرائشی، خوبصورتی۔زینُ الدیك: مرغ کی کلغی۔الزینة: آرائشی، زینت کی اشیاء، سجاوٹ۔باغوں کا خوبصورت پھولوں، پتوں اورتنوں والا ایک قسم کا پودا۔امراضُ الزینة: (طب) بالوں، جلد یا ناخن کے امراض۔الزَّیان: خوبصورت کہتے ہیں۔قمرٌ زیان: بمعنی خوبصورت چاند۔الزیان: زیبائش اور آرائش کی چیزیں۔الزینیة (ن): پھول دار پودے۔المُزَیِّن: نائی، حجام۔

۲۔الزان: بدہضمی۔الزانة: بدہضمی۔

○ زانَ ــ زَینًا ہ: کو آراستہ کرنا، سجانا، کی آرائش کرنا، کا سنگار کرنا۔زَیَّن ہ: کی آرائش کرنا، کا سنگار کرنا، کو آراستہ کرنا، سجانا، کی تزئین کرنا، سج دھج کرنا، کی زیبائش کرنا۔ــ ہ و ہ: کو اعزاز بخشنا، کو مشرف کرنا۔ــ ہ: کی شیو کرنا۔زَیَّنتْ نفسَها: (عورت کا) میک اپ کرنا۔ــ ہ الی / ل: کو مناسب حال روشنی میں کے روبرو پیش کرنا۔ــ ہ ل: کو کسی کی آنکھوں کے سامنے خیال میں لا کھڑا کرنا، کسی کے ذہن میں کسی چیز کا تصور پیدا کرنا۔ــ ل أن: کو خیال دلانا کہ، کو کچھ کرنے کا خیال دینا یا دلانا۔تَزَیَّن: آراستہ ہونا، سجنا، خوش پوش ہونا۔بناؤ سنگار کرنا، بننا سنورنا، بن سنور کر نکلنا، شیو کرنا۔اِزدان: آراستہ ہونا، سجنا، مشرف ہونا۔

زَیْن: خوبصورتی، حسن، جمال، خوبصورت، دلکش، نفیس۔زینة جمع زِینات: سجاوٹ، تزئین، آرائش، زیبائش، زیور، کپڑے، پوشاک، لباس، بناؤ سنگار کا سامان، ہار سنگار۔زینةُ الوجه: میک اپ بیت الزینة: بیوٹی شاپ۔اشجار الزینة: زیبائشی درخت۔نباتات الزینة: زیبائشی پودے۔خِوانُ الزینة: ڈریسنگ ٹیبل، سنگار میز۔غرفة الزینة: ڈریسنگ روم، سنگار کا کمرہ۔زَیَّان: خوبصورت۔

زِیان: سجاوٹ، تزئین، آرائش، زیور، زیبائش، آرائشی۔

زِیانة: نائی کا پیشہ۔تَزیین: سجانا، آرائش، زیبائش، فرضی بات، بناوٹ، دکھاوا، تصنع، بہانا۔مُزَیِّن: نائی، حجام، اصلاح ساز، باربر، ہیئر ڈریسر۔مُزَیَّن: سجایا ہوا، آراستہ کیا ہوا۔ــ ب: سے مشرف، سے آراستہ کیا ہوا، سے زیبائش کیا ہوا، سے خوبصورت یا خوشنما بنایا ہوا۔مُزدان ب: ایضاً

زیا: زَیَّا تزییةً ہٗ: کو پوشاک پہنانا۔هذه زایٌّ فزَیِّها: یہ (ز) ہے اسے زَ کے ساتھ پڑھ۔تَزَیّا: پوشاک پہننا۔و۔بزی القوم: قوم کا لباس پہننا۔الزِیّ جمع ازیاء: پہننے کی ہیئت یا شکل۔اقبلَ بزیّ العرب و جاء نا بزی غریب: وہ عرب کے لباس میں آیا اور وہ ہمارے پاس عجیب لباس میں آیا۔

○ زِینکو: زنک (Zinc) جست۔

س

س تلفظ سین: حروف تہجی میں بارہواں اور حروف ابجد میں ساٹھ کی تعداد ظاہر کرتا ہے۔ حرف سین مضارع پر داخل ہو کر اسے مستقبل قریب کے لئے مخصوص کر دیتا ہے۔ سوف کے ساتھ اس کے مستقبل کی مدت کمتر ہے۔ اسے صرف تنفیس یعنی توسیع کا حرف کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مضارع کو تنگ وقت سے وسیع مدت میں منتقل کر دیتا ہے جو مستقبل کا زمانہ ہے۔

ساب: سَأب - سَأباً ہٗ: (کا) گلا گھونٹنا۔ السقاءَ: مشک کو فراخ کرنا، - وسَئِبَ - سَأَباً من الشراب: پانی سے سیراب ہونا۔ السَّأب (مص): جمع سُؤُوب: بڑی مشک۔ السُؤبان: مال کا اچھا منتظم المِسْأَب: بڑی مشک، بہت پانی پینے والا۔

سات: سَأتَ - سَأتاً: (کا) گلا گھونٹنا۔ السَّأْت (ع): گلے کا پہلو تثنیہ: سأتین:

○ ساج جمع سیجان: ساگوان۔

○ ساتن: سائن: (ایک قسم کا کپڑا)

سأد: سَأَدَ - سَأداً و سَأَداً ہٗ: کا گلا گھونٹنا۔ سُئِدَ: کھاری پانی پینے سے بیمار پڑ جانا۔ مَسْؤُد: کھاری پانی پینے کی وجہ سے بیمار۔ سَئِدَ - سَأَداً: پینا۔ —— الجرحُ: زخم کا کھل جانا اور خراب ہونا۔ سَئِید: کھلا اور خراب زخم۔ اُسْأَدَ اِسْآداً: ساری رات چلنا۔ کہتے ہیں۔ اسعدَ یومَہٗ اِسعاداً مَنْ اَسْأَدَ لیلتَہٗ اِسْآداً: جو ساری رات چلا اس نے اپنے دن کو مبارک بنا دیا۔ السُّؤاد (طب): کھاری پانی پینے سے پیدا ہونے والی بیماری۔ السُّؤْدَۃ: جوانی کا باقی حصہ

○ سادۃ: سادہ، صاف، یک رنگا، یکساں

○ قہوۃ سادہ: قہوہ (بغیر چینی ملائے)

سأر: سَأَرَ - سَأْراً و اَسْأَرَ الشاربُ فی الأناء: پینے والے کا برتن میں کچھ باقی رہنے دینا، جوٹھا چھوڑنا۔ سَأّار: جوٹھا۔ باقی بچا ہوا۔ کہا جاتا ہے اَسْأَر الحاسب فی حسبتہ: حساب کرنے والے نے حساب پوری طرح نہیں کیا۔ سَئِرَ - سَأَراً الشیءُ: چیز کا باقی رہنا۔ تَسَأّرَ النبیذَ: جوٹھا نبیذ پینا۔ السُؤْر جمع أسآر: برتن میں بچا ہوا پانی۔ باقی ماندہ۔ جوٹھا۔ کہا جاتا ہے۔ ھو سُؤرُ شرٍ: وہ شریر ہے۔ السُّؤْرۃ جمع سُؤَر: جوانی کا بقیہ۔ - من المال: عمدہ مال۔ السائر (فا) من الشیٔ: چیز کا بقیہ۔ باقیماندہ حصہ۔

○ الساسانیون: ساسانی۔ فارس کے شاہوں کا خاندان۔

سأسأ: سَأْسَأَ سَأْسَأَۃً بالحمار: گدھے کو روکنے کے لئے ڈانٹنا یا پینے اور چلے جانے کے لئے بلانا۔ عام بول چال میں۔ سأسأ الماءُ: پانی ہلکے ہلکے بہنے لگا۔ تسأسأتِ الامورُ: امور کا مختلف ہونا

ساف: سَأفَ - سَأَفَتْ یدُہٗ: ہاتھ کا ناخن کے اردگرد سے پھٹنا، تڑخنا۔ سَئِفَۃ: ناخن کے اردگرد سے پھٹا ہوا ہاتھ۔ سَئِفَ - سَأَفات یدُہٗ: ہاتھ کا ناخن کے اردگرد سے پھٹنا۔ و - انْسَأَفَ لیفُ النخلِ: کھجور کے پتوں وغیرہ کا پھٹنا، چھلنا۔ السَّاف: کھجور کی شاخ، دُم کے بال۔ السَّائِفۃ: جمع سَوَائِف: نیچے کی باریک ریت

○ ساغو: ساگودانہ، سالودانہ

○ ساکو و ساکوہ: عام کوٹ، عام جیکٹ

سأل: سَأَلَ - سُؤالاً و سَآلَۃً و سَآلَۃً و مَسْأَلَۃً و تَسْآلاً: مانگنا، چاہنا، طلب کرنا، درخواست کرنا، عطیہ مانگنا۔ سألتُ اللّٰہَ نعمۃً (میں نے اللہ تعالیٰ سے نعمت مانگی)۔ سأَلْتُہٗ عن حالِہ: میں نے اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ کبھی ہمزہ کی تخفیف ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے۔ سَالَ یسال سَلْ: جیسے خاف یخاف خَفْ۔ اس سے اسم مفعول مَسُول ہوتا ہے، جیسے مَخُوف۔ سَاءَلَ و سَایَلَ مُسَاءَلَۃً و مُسَایَلَۃً ہٗ و سَاءَلَ عنہ: بمعنی سَأَلَ۔ أَسْأَلَ ہٗ سُؤلَہٗ و سُؤْلتَہٗ و مَسْأَلَتَہٗ: کی حاجت روائی کرنا، کی ضرورت پوری کرنا۔ تَسَأّلَ و تَسَوَّلَ: مانگنا۔ تَسَاءَلَ و تَسَاوَلَ القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے سے دریافت کرنا، پوچھنا۔ السُؤْل والسُّوْل والسُؤْلۃ و السُوْلۃ: التجا، درخواست۔ السَّأّال و السُّؤَلۃ والسُّؤُول: بہت پوچھنے والا۔ السَّائِل جمع سائِلون و سُؤّال و سُؤَّل و السَّأَلۃ: مانگنے والا، بھکاری المَسْأَلَۃ: جمع مَسَائِل: حاجت، مطلب۔

○ سؤال: مسئلہ، ایشو، مشکل، معاملہ، قضیہ، کام بات، درخواست مُسَاءَلۃ: پوچھ گچھ۔ تفتیش۔ تَسَوّل: بھیک مانگنا، سخت ناداری۔ مَسْئُولِیۃ: ذمہ داری عن (کی) مُتَسَوّل: بھکاری۔ سُؤَّال عن: کے متعلق سوال کی درخواست۔ سؤال عن: کے متعلق سوال۔ سَأَلَ - ہٗ ہ او عن: سے کچھ پوچھنا یا اس کے متعلق پوچھنا۔ سأل ہٗ عن: سے کے متعلق دریافت کرنا۔ سأل ہٗ او منہ شیئاً: سے کوئی شے طلب کرنا۔ سأل ہٗ او منہ شیئاً: سے کی درخواست کرنا، سے کا مطالبہ کرنا، سے کا دعویٰ کرنا۔ سأل ہ عن اخبارہ: سے کسی دوسرے کے بارے میں دریافت کرنا۔ سأل ہ رأیَہٗ: سے اس کی رائے پوچھنا، سے مشورہ کرنا۔ سأل ہٗ سؤالا: نے سوال کرنا یا پوچھنا۔ یُسْأَلُ عن: وہ کے متعلق جواب دہ ہے، کام کا ذمہ دار ہے۔ تساءل ھل عن: اپنے آپ سے پوچھنا، کے متعلق،

کیا۔ تساء ل عن : کے متعلق دریافت کرنا۔

○ سام : حضرت نوح کے بڑے بیٹے کا نام، سامی : سام کی نسل کا۔

سام: سَئِمَ - سَأَمَةً و سَأَمًا و سَآمَةً و سَأمًا و سآمةً الشئَ و منه : سے اکتاجانا، بور ہونا، بیزار ہونا، سے تھک جانا۔ سَؤُوم : متنفر، بیزار، تھکا ہوا، اکتایا ہوا۔ اَسأَم إِسآمَاءً : کو بور کرنا، میں اکتاہٹ پیدا کرنا یا بیزاری کا باعث ہونا، کو تھکا مارنا۔

○ سَئِم : تھکا ہوا، اکتایا ہوا، بیزار

○ سآمة : تھکاوٹ، اکتاہٹ بیزاری، بوریت۔

سأ: ا۔ سَأَ اَ یَسأَ سَأْوًا : دوڑنا و - الشیء : کا ارادہ کرنا قصد کرنا۔ السَأو (مص) : وطن، وہ جہت جس کی طرف جانے کا ارادہ کیا جائے۔ ہمت، عزم ارادہ، پختہ ارادہ، سرگرمی شوق، جوش، کہتے ہیں، ھو بعید السأو : وہ بڑا باہمت و حوصلہ ہے۔

۲۔ سَأَ یَسأَ و سَأوًا الرجلَ : کو رنجیدہ کرنا۔ الثوبَ : کپڑے کا پھیلانے سے پھٹ جانا و۔ بینھم : کے درمیان فساد برپا کرنا۔

سبّ - ا۔ سَبَّ - ُ سَبًّا و سِبِّیبَی ہُ : کو سخت گالی دینا، کی اہانت کرنا، بیعزتی کرنا، توہین کرنا، ہتک کرنا۔ سَبَّبَ ہُ : کو سخت گالی دینا، کی خوب توہین کرنا، بےعزتی کرنا، سَابَّ مُسَابَّةً و سِبَابًا ہُ : کو گالی دینا، کی بےعزتی کرنا، کی اہانت کرنا۔ تَسَابَّ الرجلان : ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنا اور گالی دینا ایک دوسرے کی توہین کرنا، بےعزتی کرنا۔ اِستَبَّ القومُ : باہم گالی گلوچ کرنا۔ اِستَسَبَّ لہُ : کو گالی گلوچ کے لئے پیش کرنا، یا کھینچ کر لے جانا۔ السِب و السُبَّۃ و المِسَبّ و المِسَبَّۃ: بہت گالی دینے والا۔ السُبَّۃ: جسے لوگ بہت گالیاں دیں، عار، بےعزتی۔ السَبّاب م سَبّابَۃ : بہت گالیاں دینے والا۔ الاُسبُوبَۃ : گالی کا باعث کہتے ہیں۔ بینھم اُسبُوبَۃ یَتَسَابُّونَ بھا : یعنی ان کے درمیان ایک دوسرے کو گالی دینے کا کوئی نہ کوئی باعث ہے۔

۲۔ سَبَّ - ُ سَبًّا الحبلَ : رسی کاٹ ڈالنا۔ سَبَّبَ الاسبابَ : اسباب پانا ۔۔ للماءِ مجریً : پانی کے لئے نالی درست کرنا۔ الامرَ : کسی امر کا سبب بننا۔ تَسَبَّبَ : اسباب تلاش کرنا۔ بہ الیہ : کا وسیلہ بننا۔ ۔۔ بالامر : کا سبب بننا۔ اِستَسَبَّ لہُ الامرُ : کا معاملہ درست ہونا۔ السِبّ جمع سُبُوب : رسی، ڈوری۔ کتان کا باریک ٹکڑا، پردہ، پگڑی، میخ۔ السَبَب جمع اَسباب : ذریعہ، راستہ۔ (کہا جاتا ہے۔ مالی الیہ سببٌ : میرے پاس اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں)۔ رسی کیونکہ اس کے ذریعہ پانی تک رسائی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے۔ قطع اللّٰہُ بہ السببَ : اللہ تعالی نے اسکی زندگی ختم کردی)۔ دوستی، قرابت داری کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ تقطعت بھم الاسبابُ : انکی دوستیاں اور تعلقات کٹ کر رہ گئے، کہا جاتا ہے۔ تعاطیَ الاسبابَ : اس نے امور معیشت کے اسباب مہیا کئے۔ انقطعت عنہ الاسبابُ : اس کے معیشت کے ذرائع جاتے رہے۔ اسبابُ السماء : آسمان کی نگرانی کے برج اور اس کے کنارے۔ السَبِیب : بالوں کی لٹ، زلف، گیسو و۔ من الفرس جمع سَبَائِب : گھوڑے کی دم اور اسکی پیشانی کے بال۔ ایال، کہا جاتا ہے۔ قد عقد و اسبائِبَ فیلھم : انہوں نے اپنے گھوڑوں کی ایالوں میں گرہیں لگائیں۔ السَبِیبَۃ جمع سَبَائِب : بالوں کی لٹ، کتان کا باریک ٹکڑا۔ ۔۔ من الفرس : ایال گھوڑے کی دم اور اسکی پیشانی کے بال۔ المُتَسَبِّب عند المولّدین : (جدید عرب ادباء کی رائے میں) پرچون فروش، خوردہ فروش۔

○ سببٌ اکبر : بڑی یا اصل وجہ اسباب الحکم : رائے اسباب الراحۃ : عیش و عشرت کی زندگی، تکلفات۔ بِسببِ : کی وجہ سے، کے باعث، کے سبب سے۔ بسبب ذلک : اس وجہ سے، لہٰذا، کے باعث کان السبب فیہ : کا باعث ہونا، کا قصوروار ہونا، مورد الزام ہونا۔ یرجع السبب الی : کی وجہ یہ ہے۔ اخذ باسباب الحضارۃ الحدیثۃ : عصری تہذیب اختیار کرنا۔ وصل اسبابہُ باسبابہ : سے مل کر کام کرنا۔ تقطعت الاسبابُ بین : کے درمیان تعلقات منقطع ہیں۔ شاطرہٗ اسباب المسرۃ : کی خوشی میں شریک ہونا۔ سَبَبِیّۃ: علت و معلول کا سلسلہ۔ سَبَّابَۃ : انگشت شہادت، انڈکس فنگر (Index finger) مُسَبِّبات : سببی عوامل۔ السبب و المسبّب۔ علت و معلول (Cause and effect)

۳۔ سَبَّ ۔ ُ سَبًّا و سِبِّیبی ہُ : کے مقعد میں نیزہ مارنا ۔۔ سَبًّا الفرسَ : گھوڑے کی کونچیں کاٹنا۔ السَبَّۃ : مقعد۔

۴۔ السبب : جمع اسباب فی العروض، علم عروض میں "دو متحرک حرف جیسے لِمَ یا ایک متحرک اس کے بعد ساکن حرف جیسے لَمْ"۔ السَبَّۃ من الحر او البرد او الدھر : عرصہ۔ السِبَّۃ : ہفتہ (سریانی لفظ) و۔ السَبَّابَۃ و المِسَبَّۃ : انگشت شہادت۔

۵۔ سَبسَبَ الماءَ : پانی بہانا۔ و۔ الرجلُ : ہلکی رفتار سے چلنا۔ تَسَبسَبَ الماءُ : پانی کا بہنا۔

۶۔ سَبسَبَ الرجلَ : نہایت گندی گالی دینا۔

۷۔ السَبسَب جمع سَبَاسِب : بیابان، ریگستان، دور کی ہموار زمین کہتے ہیں : ارضٌ سَبَاسِب یا سُبَاسِب : بیابان۔ السَّبَاسِب : عید فصح سے پہلے اتوار کی عید کیا ہم۔

سبأ : ا۔ سَبَأَ - سَبْأً و سِبَاءً و مَسبَأً و اِستَبأَ اِستِبَاءً الخمرَ : شراب پینے کے لئے خریدنا۔ السِبَاء و السَبِیئَۃ : شراب، خمر۔ السَّبّاء : شراب فروش۔

۲۔ سَبَأَ - سَبْأً و سِبَاءً و مَسبَأً الجلدَ : کھال کھینچنا، اتارنا ۔۔ الجلدَ بالنار : کھال کو آگ سے جلانا۔ ۔ الرجلَ : کو کوڑے لگانا۔ و۔ النارُ الجلدَ : آگ کا کھال کو جھلسنا۔ اِنسَبَأَ الجلدُ : کھال کا اترنا، چھلنا۔ السُبأَۃ : لمبا سفر، دور کا سفر۔ السِبیُ من الحیّۃ : سانپ کی کینچلی۔ المَسبَأ : پہاڑی راستہ یا عام راستہ۔

۳۔ سَبَأَ - سَبْأً و سِبَاءً و مَسبَأً الرجلَ : کے ساتھ ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا۔

۴۔ اَسبَأَ لأمر اللّٰہ : اللہ کے حکم کے لئے جھک جانا ۔۔ علی الشر : شرارت پر کمر بستہ ہونا شرارت کرنا۔

○ سبا و سبأ : شیبا Sheba ذھبوا ایدی (ایادی سبا) : وہ چاروں طرف بکھر گئے۔

○ سبانخ : پالک (سبزی)

سبت : ا : سَبَتَ - ُ سَبتًا : ہفتہ کے دن میں داخل ہونا، سبت منانا، آرام کرنا ۔۔ الرجلُ : حیران ہونا۔ سُبِتَ الرجلُ : کو نیند آنا۔ اَسبَتَ : ہفتہ کے دن میں داخل ہونا۔ اِستَبَتَ : سبت منانا۔ السَبت (مص) جمع اَسبُت و سُبُوت : جمعہ اور اتوار کے درمیان کا دن یعنی ہفتہ ۔۔ : بہت سونے والا۔ السُبات : نیند یا اونگھ۔ المُسبِت (فا) : وہ شخص جو بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہل جل نہ سکے اور نہ آنکھیں کھولے۔ ست، کاہل، بے حس و حرکت۔ المَسبُوت (مفع) : مردہ یا بیہوش۔

۲۔ سَبَتَ - ُ سَبتًا الشیءَ : کو قطع کرنا ۔۔ الرأسَ : سر مونڈنا ۔۔ عنقَہُ : کی گردن پر مارنا، گردن مارنا۔ اِنسَبَتَ الجلدُ : کھال کا نرم ہونا۔ السِبت : رنگی ہوئی کھال۔

۳۔ سَبَتَ - ُ سَبتًا الشعرَ : بال کھلے چھوڑنا۔ اِنسَبَتَ الشیءُ : چیز کا لمبا ہونا، پھیلنا ۔۔ الوجہُ : چہرے کا لمبا ہونا۔ السَبت : زمانہ ۔۔ السَّبتۃ : زمانہ کا ایک عرصہ۔ السُبات : زمانہ۔ اِبنا سُبات : رات اور دن۔ السَبتاء : صحراء، دراز کان والی۔ السَبَنتاۃ : زبان دار عورت۔

۴۔ السبت : عمدہ گھوڑا، دلیر لڑکا، چالاک آدمی۔ و۔ السُبتۃ

خطمی کی مانند ایک پودہ۔ السُّبات : چالاک آدمی۔ السُّبان : احمق، بےوقوف۔ السَّبَنْتَی جمع سَبَانِت و سَبَاتِی م سَبَنْتَاۃ بہادر، آگے بڑھنے والا، چیتا۔

○ سَبَت : جمع سبتات و اَسْبِتَة : ٹوکری

○ سِبْتَمْبَرْ ستمبر: انگریزی نواں مہینہ۔

○ سَبَج : سنگِ موسیٰ

سبج : تَسَبَّجَ سیاہ چادر یا گدڑی اوڑھنا۔ السَّبَج: سیاہ منکے۔ السُّبْجَة جمع سُبَج سیاہ چادر یا گدڑی۔ السَّبَّاج سیاہ چادریں یا گدڑیاں بیچنے والا۔ سیاہ کمبل بیچنے والا۔ ثَوْبٌ مُسَبَّجٌ: چوڑے عرض کا کپڑا۔

سبح : ا۔ سَبَحَ ۔ سَبْحاً : دور تک نکل جانا۔ و۔ فی الکلام: بہت باتیں کرنا۔ و۔ فی الارض : زمین کھودنا۔ ــ القومُ قوم کا زمین میں پھرنا اور پھیل جانا ــ سَبْحًا و سِبَاحَةً فی الماء / بالماء پانی میں تیرنا۔ ستاروں اور گھوڑوں وغیرہ کے لئے اس لفظ کا استعمال بطور استعارہ کیا جاتا ہے۔ اَسْبَحَهُ کو تیرانا۔ السَّبْحَة سَبَحَ کا اسم مرة۔ السابح : جمع سابحون و سُبَّاح و سُبَّحاء م سابحة جمع سَابِحَات و سَوَابِح (فا) تیرنے والا۔ تیراک۔ ــ من الخیل: تیز رفتار گھوڑا۔ السوابح تیز رو گھوڑے السَّابِحَات: کشتیاں۔ ستارے السَّبَّاح سابح کا اسم مبالغہ۔ زبردست تیراک۔ السَّبُوح : جمع سُبَحَاء: تیرنے والا۔ فرسٌ سَبُوحٌ تیز رو گھوڑا ثوبٌ مُسَبَّح: بہت مضبوط کپڑا۔

۲۔ سَبَّحَ ۔ سُبْحَانًا : "سبحان اللہ" کہنا۔ سَبَّحَ تسبیحًا: نماز پڑھنا۔ "سبحان اللہ" کہنا۔ و۔ اللّٰهَ و لِلّٰهِ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ و تمجید کرنا۔ السُّبْحَة جمع سُبَح و سُبُحات : دعاء قضیتُ سُبْحَتی: میں نے اپنی دعا پوری کرلی۔ نافلہ نماز۔ تسبیح سُبْحَةُ اللّٰهِ : اللہ تعالیٰ کا جلال۔ سُبُحاتُ وجہِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے انوار۔ سُبحان (مص) کہتے ہیں سُبْحَانَ اللّٰهِ: میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و برائی سے مبرا کہتا ہوں۔ سُبْحَانَ مِن کذا تعجب کے لئے ہے۔ مراد سُبحانَ اللّٰه من کذا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے بے عیب اور پاک ٹھہراتا ہوں۔ مفعول مطلق کی وجہ سے منصوب ہے۔ کہتے ہیں۔ انت اعلمُ بما فی سبحانك تم اپنے دل کی بات بہتر جانتے ہو۔ التَّسْبِحَة : (مص) جمع تسابیح کلام تسبیح السَّبَّاحة : انگشت شہادت۔

السُّبُّوح والسَّبُّوح صفات باری تعالیٰ میں سے ہیں کیونکہ اسکی تسبیح کی جاتی ہے۔ المِسْبَحَة : تسبیح المُسَبِّحَة : بمعنی السَّبَّاحة۔

۲۔ سَبَحَ ۔ سَبْحًا الرجلُ : اپنی روزی کمانے کا بندوبست کرنا، انتظام کرنا، سونا، خاموش ہونا۔ ــ عن الامر سے فارغ ہونا۔

۴۔ السُّبْحَة : کھال کے کپڑے۔

۵۔ سَبْحَلَ سَبْحَلَةً : "سبحان اللہ" کہنا۔ السِّبَحْل: ضخیم جاریةٌ سِبَحْلَة: طویل اور جسیم لونڈی۔

۶۔ سَبْحَنَ: "سبحان اللہ" کہنا۔

○ سُبْحَانَ اللّٰهِ عن اللہ تعالیٰ ۔ سے بہت بلند ہیں، سے ماوراء ہیں۔

○ مَسْبَح : جمع مَسَابِح : تیرنے کا تالاب (Swimming pool) سابحٌ فی افکاره اپنے خیالات میں کھویا ہوا۔

○ سابحة : بےانجن طیارہ۔ glider بازیابی جہاز۔ باربردار جہاز۔ مُسَبِّحَة: انڈکس فنگر۔

سبخ : ا۔ سَبَخَ ۔ سُبْخًا : فارغ ہونا۔ گہری نیند سونا۔ سَبَخَ الرجلُ فارغ ہونا، گہری نیند سونا۔

۲۔ سَبَّخَ ۔ تَسْبِیخًا دور ہونا۔ سَبَّخَ عنه ہلکا کرنا۔ کہتے ہیں۔ اللّٰهم سَبِّخ عنی الحمی او الشِّدَّة: اے اللہ! میرا بخار یا سختی ہلکی کردے۔ ــ الحَرُّ گرمی کو ٹھنڈا کرنا۔ ــ العِرقُ رگ کا ساکن ہونا۔ ــ الحرُّ گرمی کا کم ہونا، ہلکا ہونا، تَسَبَّخَ الحرُّ او الغضبُ گرمی یا غصہ کا ٹھنڈا ہونا۔

۳۔ سَبَّخَ القطنَ ونحوَهُ: روئی وغیرہ دھننا۔ السَّبِيخ: دھنی ہوئی روئی یا بکھرے ہوئے پر وغیرہ۔ السَّبِيخة ح سبائخ دھنی ہوئی روئی یا بکھرے پروں کا ایک گالا یا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ طارت سبائخ القطن دھنی ہوئی روئی کے گالے اڑ گئے۔

۴۔ سَبِخَ ۔ سَبَخًا المکانُ کسی جگہ کا شورے والی ہونا۔ سَبِخ : شوردار۔ اَسْبَخَ فی الحفر کھودنے میں زمین شور تک پہنچنا۔ و۔ المکانُ جگہ کا شورے والی ہونا۔ السَّبْخَة و السَّبَخَة ج سِبَاخ: نمکین دلدلی زمین۔ کائی کے مانند پانی کے اوپر آجانے والی چیز۔ ارضٌ سَبْخَةٌ جمع سِبَاخ و سَبَخَةٌ جمع سَبَخَات شورزمین۔ السِّبَاخ من الارض: زمین جسے جوتا اور آباد نہ کیا گیا ہو۔

○ سَبَّخَ الارض زمین کو زرخیز کرنا، بارآور کرنا، زمین میں کھاد ڈالنا۔

○ سَبَخ گوبر، کھاد، کیمیائی کھاد۔ سَبَخ بلدی۔ کھاد۔

سَبَخ :کھاری یا نمکین (مٹی) سَبْخَة و سَبَخَة جمع سِبَاخ: کھاری دلدل۔ ارض سبخة نمکین یا کھاری زمین۔ سِبَاخ: جمع اَسْبِخَة: گوبر، کھاد۔ کیمیائی کھاد۔ سباخ بلدی :کھاد جمع سَبَائخ ڈھیلی یا نہ کاتی ہوئی روئی۔

سبد: ا۔ سَبَدَ ۔ سَبْدًا الشعرَ بال مونڈنا۔ سَبَّدَ شَعْرَهُ: بالوں کو مونڈنا۔ ٹنڈ کرنا۔ (ضد) اَسْبَدَ الشعرَ: بالوں کو مونڈنا۔

۲۔ سَبَدَ ۔ سَبْدًا شاربُهُ: مونچھوں کا بڑی ہو کر ہونٹوں پر آجانا۔ سَبَّدَ الشعرُ مونڈنے کے بعد بالوں کا اُگ آنا (ضد) و۔ الرجلُ سر میں تیل لگانا چھوڑ دینا۔ و۔ رأسَهُ: سر میں کنگھی کرنا۔ ترک کرنا اور پھر چھوڑ دینا۔ الفرخُ چوزے کے پر نکلنا اور سخت ہونا۔ و۔ العشب پرانی گھاس میں نئی گھاس کا اُگ آنا۔ اَسْبَدَ العشبُ پرانی گھاس میں نئی گھاس اُگ آنا۔ السَّبَد ج اَسْباد کم بال۔ کہتے ہیں۔ (مالهُ سَبَد ولا لَبَد): اس کے پاس نہ تو بال ہیں نہ صوف یعنی کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اَسْبَاد العشب سبزہ کی نئی نکلی ہوئی نوکیں یا سرے۔ السَّبَد : سبز گھاس کا بقیہ۔ السُّبَد جمع سِبْدان (ح) ایک قسم کا پرندہ۔

۳۔ السِّبْد جمع اَسْباد(ح) بھیڑیا۔ مصیبت کہتے ہیں۔ هو سِبْدٌ من الاسباد وہ بڑا شاطر چور ہے۔ الاسباد سیاہ کپڑے۔ السُّبَد : جمع سِبدان بدبختی حوض کی نالی کا کپڑے کا ڈاٹ۔

۴۔ السَّبَنْدَی جمع سَبَانِد و سَبَانِدَة لمبا، بہادر، (ح) چیتا۔ السَّبَانِدَة: کھیل کود میں مصروف رہنے والے لوگ۔

سبر :ا۔ سَبَرَ ۔ سَبْرًا و اَسْبَرَ و اِسْتَبَرَ الجرحَ او البئرَ او الماءَ زخم، کنوئیں یا پانی کی گہرائی کا پتہ لگانا، جانچ کرنا۔ کہتے ہیں۔ هذه مفازة لاتُسْبَرُ: اس بیابان کی وسعت نامعلوم ہے۔ ــ الامرَ کا تجربہ کرنا۔ ٹھوک بجا کر دیکھنا، جانچنا، آزمانا۔ السَّبْر و السِّبْر : اصل، رنگ، ہیئت۔ (کہتے ہیں۔ فلانٌ حَسَنُ الحِبْر و السِّبْر فلاں خوش ہیئت اور خوبصورت ہے۔ رأیتُهُ سَیِّئَ السِّبْرِ میں نے اسے پیلا اور بے رونق دیکھا) مشابہت، کہتے ہیں: قد غلب علیه سِبْرُ فلان: اس میں فلاں کی مشابہت غالب ہے) حسن، خوبصورتی، جمال السِّبار جمع سُبُور المِسْبَر جمع مَسَابِر و مسابیر زخم کی گہرائی معلوم کرنے کی سلائی۔ المَسْبَر ہیئت، حسن و جمال۔ کہتے ہیں۔ حمدتُ مَسْبَرَهُ و مَخْبَرَهُ : میں نے

اسکی وضع قطع کی تعریف کی لیکن آزمائش کر کے نہیں جانا۔ المِسبار جمع مَسَابِر و مسابیر وہ آلہ جس سے گہرائی ناپی جائے۔ زخموں کی گہرائی معلوم کرنے والا۔ مَسْبَرُ الجرح زخم کی گہرائی۔ المَسْبَرَة: آزمائش، جانچ پڑتال۔ المَسْبُور (مفع) خوش قامت، خوش وضع۔

۲۔ السِّبر: جمع اَسْبار شیر۔ السُّبرَة: جمع سُبَرات ٹھنڈی صبح۔ السِّبرو ثنی السِّبر و السُّبرَة (ح): ایک لمبے بازوؤں والا شکاری پرندہ۔ السَّبَـار (ح) افریقہ کا ایک درندہ جو بجو کی شکل کا ہوتا ہے۔ السبارة ایک قسم کا جہاز۔ السَّابِرِیّ عمدہ باریک کپڑا۔ بلاد فارسی میں ایک قصبہ سابور سے منسوب۔ یعنی سابور کا۔ بڑھیا کھجور۔ باریک بناوٹ کی مضبوط زرہ۔ السَّابُورَة (ب) کھجور کے پتوں کا بڑا ٹوکرا جو مٹی ڈھونے کے کام آتا ہے۔ السَّبُّورة سلیٹ، اس کا معروف نام لوح الحجر ہے۔

۳۔ سَبَرَتِ الرجلُ قناعت کرنا۔ السُّبرُتُ والسِّبرِیت والسِّبرات جمع سَبَارِیت۔ و سَبَار مسکین و محتاج۔ السُّبْرُوت مسکین محتاج۔ تھوڑی چیز، امرد لڑکا۔ وہ لڑکا جسے ابھی داڑھی نہ آئی ہو۔ و۔ من الارضِ چٹیل ریگستان۔ المُسْبَرَت بے بال شخص۔

○ سَبُّورَة: سلیٹ۔ بلیک بورڈ۔

○ سَبَرَ اغوارَ الشئی کی گہرائی میں جانا، کی تہہ تک پہنچنا کا مکمل مطالعہ کرنا۔

○ مِسبار: جمع مُسُبُر (طب) زخم سلائی۔ مِسْبَرج مَسَابِر ایضاً۔ مِسبار: جمع مسابِر ایضاً۔

○ سِبْس المفوزہ جیسا ایک چھوٹا باجا۔

○ تَسَبْسَبَ (بالوں کا) سیدھا ہونا، (آنسوؤں کا) بہنا۔

○ سُبْسَبْج سباسب بیابان، بنجر زمین۔ قفر سبسب بیابان، ریگستان، بنجر زمین، اجاڑ، سنسان، بے آباد علاقہ۔

سبط: اَسبطَ - سَبطاً و سَباطاً و سُبُوطاً و سَبُطَ سُبُوطَةً و سَبَاطَةُ الشَعَرُ بالوں کا سیدھا ہونا۔ (یعنی گھونگھریالے نہ ہونا) السَّبْط والسَّبِط من الشَعر جمع سباط سیدھے بال (گھونگھریالے بالوں کا الٹ) کہتے ہیں۔ ھو سَبْطُ الجسم یعنی وہ معتدل کاٹھی اور خوبصورت قد کا مالک ہے۔ السِّبط جمع اَسْباط اولاد کی اولاد مگر زیادہ تر نواسے کے لئے مستعمل ہے۔ یعنی پوتے کے مقابلہ میں جو بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے۔ اور السِّبط یعنی شجرہ سے مشتق ہے۔ و۔ من الیھود یہود کا قبیلہ۔ السَّبط بہت شاخوں اور ایک جڑ والا درخت۔ تروتازہ یعنی گھاس۔ شعرٌ سَبْطٌ: سیدھے بال۔ السُّباطة: کنگھی کرنے پر گرنے والا بال۔ کوڑا کرکٹ۔ گھورا۔

۲۔ سُبِطَ سَبطاً بخار ہونا۔ سُبَاط: بخار۔

۳۔ سَبِطَ - سَبَاطَةً المطرُ: دور دور اور خوب بارش ہونا۔ السَّبِط من المطر جمع سِباط شدید بارش کہتے ہیں۔ ھو سَبْطُ الیدین او سَبْطُ البَنَان وہ بہت سخی ہے۔ فیاض ہے۔

۴۔ سَبَّطَتِ الناقةُ او النعجةُ: اونٹنی یا بھیڑ کا ناتمام بچہ گرانا۔ مُسَبِّـط: ایسی اونٹنی یا بھیڑ (جو ناتمام بچہ گرائے)۔

۵۔ اَسْبَطَ گر کر نہ ہل سکنا، خوف سے خاموش رہنا۔ ــــ بالأرضِ زمین سے چمٹنا۔ کمزور ہونا۔ ــــ عن الامر سے غفلت برتنا۔ و۔ فی نومہ نیند میں آنکھیں بند کرنا۔

۶۔ شُباط: جسے سُبَاط بھی کہا جاتا ہے۔ فروری انگریزی میں سال کے دوسرے مہینہ کا نام۔ السَّابُوط (ح) ایک سمندری جانور۔ السَّاباط جمع سَوابِط و ساباطات: وہ چھت جو دو مکانوں کے درمیان راستہ میں ہو۔ آرکیڈ، مسقف راستہ۔ مسقف گلی۔ محرابی راستہ۔

○ سِباط و سُباط: آرکیڈ، مسقف راستہ، مسقف گلی، محرابی راستہ۔ السَّبَطَانة نئے کی طرح کی نلکی جس میں غلہ رکھ کر پرندہ کو مارتے ہیں۔

۷۔ اِسْبَطَرَ اِسْبِطراراً دراز ہو کر لیٹنا۔ ــــ تْ له البلادُ کے لئے ملک کا درست ہونا۔ ــــ تِ الابلُ اونٹوں کا تیز چلنا۔ السِّبَطْر سیدھا پھیلا ہوا طویل، بخت تیز۔ اَسَدٌ سِبَطْرٌ جست لگاتے وقت دراز ہونے والا شیر۔ السِّبَطْرات کہتے ہیں۔ جمالٌ سِبَطْرات زمین پر چلنے والے لمبے لمبے اونٹ۔ السُّبَاطِر والسِّبَطْر دراز قد آدمی۔ السِّبَطْرِی مغرورانہ چال۔

○ سُبَّاط: جمع سبابیط جوتا (Shoe) سُبَاطة: پھلوں کا خوشہ، گچھا۔

سبع: ۱۔ سَبَعَ - سُبْعاً القومَ کا ساتواں ہونا، کے مال کا ساتواں حصہ لینا۔ ــــ الحبلَ رسی کو سات لڑی کرنا۔ ــــ الشیءَ: کو سات بنانا۔ سَبَّعَ کو سات بنانا یا سات گوشے والی بنانا۔ و۔ الاناءَ برتن کو سات بار دھونا۔ ــــ اللہ لک: اللہ اللہ تجھے تیرا اجر سات مرتبہ دے، یا سات گنا دے یا سات بچے دے۔ ــــ ت المرأةُ عورت کا ساتویں مہینے بچہ جننا۔ ــــ القومُ: قوم کا، پورے سات سو افراد پر مشتمل ہونا۔ اَسْبَعَ القومُ کا سات ہونا۔ ــــ الشیءَ کو سات بنانا۔ ــــ الرجلُ: کے اونٹوں کا گھاٹ پر ساتویں دن جانا۔ سَوَابِعَ ساتویں دن گھاٹ پر جانے والے اونٹ۔ اِسْتَبَعَ القومُ: کا سات ہونا۔ السابع (فا): جمع سَبَعة و سابعون: (ع ج): ساتواں سَبْعة م سَبْع: سات السَّبْع: سبعة کا مونث، سات کہتے ہیں۔ طاف بالبیت سَبْعًا اس نے گھر کا سات دفعہ طواف کیا۔ السبع المثانی سورۃ فاتحہ یا سات پہلی سورتیں السُّبْع (ج) اَسْبَاع: ساتواں حصہ۔ حُمَّی السُّبْع: ساتویں دن چڑھنے والا بخار۔ السِّبْع اونٹوں کا ساتویں روز گھاٹ پر آنا۔ السُّبَاعِیّ: سات گوشے والا سات حرفوں والا لفظ۔ مَولُودٌ سُبَاعِیّ: ساتویں مہینے پیدا ہونے والا بچہ۔ ست ماہی (پنجابی) السَّبْعُون: ستر (مذکر و مونث دونوں کے لئے) السَّبِیع: ساتواں حصہ۔ الاُسْبُوع: جمع اَسابیع ہفتہ (سات دن جن میں پہلا اتوار اور آخری سنیچر ہے) المُسَبَّع: سات ماہ کا بچہ۔ (وہ بچہ جس کی ماں مر گئی ہو اور کوئی دوسری عورت دودھ دیئے)۔ المُسَبَّع (ہ) سطح جس کی گرد سات برابر ضلع ہوں۔ اگر یہ ضلعے برابر نہ ہوں تو اسے ذو سبعۃ اضلاع کہا جائے گا۔

۲۔ سَبَعَ - سَبْعًا الرجلَ کی غیبت کرنا، کو گالی دینا۔ سَابَعَ مُسَابَعَةً و سِبَاعًا کو گالی دینا۔

۳۔ سَبَعَ - سَبْعًا الشیءَ: کو چرانا۔ اِسْتَبَعَ الشیءَ: کو چرانا، کی چوری کرنا۔

۴۔ سَبَعَ - سَبْعًا الذئبُ الغنمَ بھیڑیے کا بکری کو چیرنا پھاڑنا۔ سُبِعَتِ الوحشیةُ جنگلی جانور کے بچے کا درندہ کا لقمہ بن جانا۔ مَسْبُوعَة وہ جنگلی جانور جس کے بچہ کو درندہ کھا گیا ہو۔ اَسْبَعَ الراعی چرواہے کے مویشی میں درندہ کا کود پڑنا۔ و۔ المکانُ میں درندوں کا بہت ہونا۔ و۔ کو درندے کا گوشت کھلانا۔ اِسْتَبَعَ الغنمَ بکری کو پھاڑ ڈالنا۔ السَّبُع و السَّبْع والسَّبَع: جمع اَسْبُع و سِبَاع و سُبُوع و سُبُوعة م سَبُعة و سَبْعَة درندہ۔ السَّبُع من الطیر شکاری پرندہ۔ یومُ السبع یوم قیامت اَرْضٌ مَسْبَعَةٌ وہ زمین جہاں درندے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ درندہ گاہ۔ المَسْبُوع درندہ سے ڈرا ہوا۔

۵۔ السُّبَاعِی بڑا اونٹ سُبَاعِی البَدَن پورے قد والا آدمی۔ المُسَبَّعَۃ بولا بیٹا۔

○ سَبَعَ شیئاً: کسی چیز کو سات گنا کرنا، کسی چیز کو سات حصوں میں تقسیم کرنا۔
○ سَبُع جمع اَسْبُع و سُبُوع و سُبُوعة: غارت گر جانور، درندہ، شیر۔
○ سَبْع جمع سِبَاع: غارت گر جانور، درندہ شیر۔
○ سبعة (مونث سَبع): سات۔ سَبْعَةَ عَشَرَ (مونث سبع عشرة): سترہ۔
○ سُبْع و سُبُع: جمع أَسْبَاع: ساتواں ایک بٹہ سات۔ سُبَاعی: سات حصوں پر مشتمل، سات حرفی لفظ۔
○ الترجمة السبعينية: عہد عتیق کا یونانی ترجمہ، ہفتادی ترجمہ Septuagint سبعینی۔
○ اُسْبُوع الآلام: حضرت مسیح کے مصائب کا ہفتہ (Passion Week)
○ اُسبُوعی: ہفتہ وار اُسبُوعیاً: ہر ہفتے، ہفتہ وار۔ اُسبوعیة: ہفتہ وار فیچر (ریڈیو پر)

سبغ: ۱۔ سَبَغَ ـُ سُبُوغاً العیش: زندگی کا وسیع اور خوشگوار ہونا و۔ الشئی: کا پورا ہونا۔ اَسْبَغَ اللّٰه علیه النعمة: اللہ تعالیٰ کا کسی پر نعمت کو کامل کرنا۔ ـ له النفقة: کسی پر فراخی سے خرچ کرنا۔ السَّابغ: جمع سَوَابغ (فا): مکمل، پورا، وافر، بہت، فزوں تر۔ السُّبْغة: فراخی، آسودہ حالی۔
۲۔ سَبَغَ ـُ سُبُوغاً الثوبُ: کپڑے کا زمین تک دراز ہونا و۔ الی وطنه: وطن کی طرف مائل ہونا۔ ـ المطرُ: بارش کا زمین سے قریب ہونا۔ اَسْبَغَ الثوبَ: کپڑے کو کشادہ اور لمبا کرنا و۔ الرجلُ: کا پوری زرہ پہننا۔ ذَنَبٌ سَابغ: لمبی دم۔ سَابغ الألیتین: بڑے سرین والا۔ درع سَابغة: جمع سَوَابغ: پوری زرہ۔ التَسْبِغ و التَسْبِغَة: جمع تَسابغ: زرہ کا وہ حصہ جو خود کو زرہ کی کڑیوں سے ملاتا ہے اور گردن کی حفاظت کرتا ہے۔ التَسْبِیغ عند اهل العروض: اہل عروض کے ہاں فاعلاتن کے آخر پر ایک ساکن حرف کا اضافہ کرنا جس سے وہ فاعلاتان ہو جاتا ہے۔
۳۔ اِسْبَغَلَّ الثوبُ: کپڑے کا پانی سے بھیگ جانا اور اسی طرح بالوں کا تیل سے تر ہونا۔ المُسْبَغِل: وسیع اور وافر۔
○ اسبغ الوضوءَ: صحیح وضو کرنا۔
○ سَابِغ: جمع سَوَابغ: لمبا اور ڈھیلا لباس۔

سبق: سَبَقَ ـِ سَبْقاً الی كذا: سے آگے بڑھنا۔ اس سے ضرب المثل ہے۔ (سبق السیف العذل): یعنی حقیقت ثابتہ کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ پہلے ہی دیر ہو چکی ہے انسان اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ـهُ علی كذا: پر غالب ہونا۔ ـ علی قومه: کرم اور فیاضی میں قوم سے بڑھ جانا۔ اس سے فاعل سابق جمع سابقون و سُبّاق ہے۔ سَبَّقَهُ: سے شرط لینا یا اس کو شرط دینا۔ ـتِ الشاةُ: بکری کا قبل از وقت بچہ گرانا۔ ـ الطیرَ: پرندے کے پاؤں میں بندھن ڈالنا۔ ـ البدرة بین الشعراء: شعراء کے درمیان دس ہزار کی تھیلی رکھنا کہ جو اپنے ساتھیوں پر غالب آئے اس کو انعام میں لے لے۔ سَابَقَ سِبَاقاً و مُسَابَقَةً: پر دوڑ میں غالب آنا، سے آگے بڑھ جانا آپ کہتے ہیں۔ سابقتُ بین الخیول: میں نے گھوڑوں پر سوار بٹھا کر دوڑایا تا کہ آپ دیکھیں کہ کون اول آتا ہے۔ اَسْبَقَ القوم الی الأمر: میں جلدی کرنا، سبقت کرنا۔ و تَسَابَقَ القومُ: ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ اِسْتَبَقَ القوم: ایضاً۔ ـ الرجلان الباب او الی الباب: دونوں نے دروازہ کی طرف، جلد بڑھنے کی کوشش کی۔ اِستبقا الصراط: راستہ سے آگے بڑھ جانا، راستہ چھوڑ دینا اور بھٹک جانا۔ السَّبَقُ: جمع اَسْباق و السُّبْقة: شرط جو مقابلہ میں جیت جانے والے کے لئے رکھی جاتی ہے۔ ضرب المثل ہے۔ مَن رُزِقَ السُّبقة اخذ السُّبقة: یعنی جو آگے بڑھنے میں جیت جائے گا وہ شرط میں رکھی ہوئی رقم حاصل کر لے گا۔ السِّبْقان: کہتے ہیں۔ هما سِبْقان: وہ دونوں آگے بڑھنے میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ السابق (فا): دوڑ میں جیتنے والا گھوڑا۔ اسکو المُجَلّی بھی کہا جاتا ہے۔ السابقة: جمع سَوَابق و سابقات: مونث السابق: اقدمیت برتری سبقت کہتے ہیں۔ له سابقة فی هذا الامر: اسے اس معاملہ میں سبقت، برتری یا پیش روی حاصل ہے۔ السَوَابِق: گھوڑے۔ السَّبَّاق: بہت آگے بڑھنے والا۔ المِسْبَاق: (مص) بندش، قید، سباق الخیل: گھڑ دوڑ۔ المَسْبُوق و المُسَبَّق من الخیل: سب سے آگے آنے والا گھوڑا۔
○ سبق له ان فعله: وہ پہلے ہی ایسا کر چکا ہے۔ سبق لنا القول ان: ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ۔ سبق الحکمُ علیه ب: قبل ازیں اسے کی سزا سنائی گئی تھی۔ سبق لی: اس سے پہلے یہ میرے ساتھ ہوا۔ لم یسبق لی ان: میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں۔ لم یسبق له مثیل: بے نظیر۔
○ سَبْق: پیش روی برتری، اولیت
○ سبق الاصرار: ضد، خود رائی، سرکشی
○ مِیزَةُ السبق: پہلا قدم، اقدام، پیش قدمی
○ احرز قَصَبَ السَّبْق: جیتنا، کامیاب ہونا، سَبَق: جمع اَسباق: شرط کا روپیہ، بدی ہوئی رقم Stake
○ سَبَّاق: فاتح، فتح مند، کامیاب بامراد مقابلہ میں جیتنے والا۔ ریس کار کا ڈرائیور جمع سَبَّاقون۔ قطار سَبَّاق: ایکسپریس ٹرین۔ اَسْبَقِیَّة: پیش روی، برتری، اولیت، سینیارٹی۔ حِصانُ السِباق: ریس کا گھوڑا۔ حَلْبَة (میدانُ) السِباق: مقابلہ کی راہ (Race Track) سِبَاقُ القوارب: کشتیوں کی دوڑ (boat race) مسابقة: جمع مسابقات: مقابلہ (Race) سابقٌ لأوانه: قبل از وقت Premature فی السابق: ایک دفعہ، پہلے، پہلے زمانہ میں۔ کالسابق: پہلے کی طرح۔ کسابق العادة: حسب معمول۔
○ سابقة: سابق کیس سوابق: سابقہ سزائیں (Previous Convictions) من اصحاب (ذوی) السوابق: پیشتر سزا یافتہ من له سوابق: پیشتر سزا یافتہ۔ غیر مَسْبُوق: بے نظیر مُسَبَّقاً: قبل از وقت (Prematuerly) پیشگی Advance In مُسَابِق: مقابلہ میں حصہ لینے والا۔ ریس میں دوڑنے والا۔ مُتَسَابِق: مقابلہ میں حصہ لینے والا مدمقابل۔

سبك: ۱۔ سَبَكَ ـِ سَبْكاً الفضةَ: چاندی پگھلا کر سانچہ میں ڈھالنا۔ ـ الکلامَ: کلام کو عمدہ بنانا۔ ـتْهُ التجاربُ: تجربات کا کسی کو مہذب بنانا۔ سَبَّكَ الفضةَ: چاندی کو پگھلا کر سانچہ میں ڈھالنا۔ ـ الکلام: کلام کو عمدہ بنانا۔ اِنْسَبَكَ الذهبُ ونحوه: سونے وغیرہ کا پگھلا کر سانچے میں ڈھالا جانا۔ السَّبِیك: پگھلا ہوا میل کچیل سے صاف السَّبِیکة جمع سبائك: چاندی وغیرہ کا ڈلا جو پگھلا کر سانچے میں ڈالا گیا ہو۔ المَسْبَك جمع مَسَابِك: پگھلانے اور ڈھالنے کی جگہ۔ فونڈری (Foundry) سفار خانہ۔ المِسْبَكُ (حی): حروف ڈھالنے کی مشین۔
○ صناعة سبك المعادن: دھاتیں صاف کرنے کی صنعت (Metalurgicindustry)
○ سَبَّاك: خام دھاتوں کو پگھلا کر صاف کرنے والا (Smeltor, Founder) سِبَاكة: دھاتوں کو پگھلانے والے کا پیشہ اور کام سَبِیکة جمع سبائك: سونے چاندی وغیرہ کی اینٹ Ingot تسبیك: دم پخت کرنا Stewing, Braising
۲۔ السبکتروسکوب: طیف پیما Spectroscope

سبل: ۱۔ سَبَلَ ـُ سَبْلاً ـهُ: کو گالی دینا۔ اسبل علی

فلان: کسی کے برخلاف بہت کچھ کہنا۔

۲۔ سَبَّلَ السِتْرَ: پردہ چھوڑنا، گرانا۔ سَبَّلَ الشَعْرَ: بال کھلے چھوڑنا (عامی)۔ أسْبَلَ السِتر: پردہ چھوڑنا و۔ الدمع: آنسو بہانا۔ — الماءَ: پانی گرانا، ڈالنا۔ — تِ السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔ — الدمع او المطرُ: آنسو یا بارش کا بہت بہنا، برسنا۔ السَبَل: وہ بارش جو بادل سے نکل آئی ہو مگر ابھی زمین پر نہ پڑی ہو۔ آنکھ کی ایک بیماری جس میں پردہ آنکھ پر چھا جاتا ہے۔ بہنے والی بارش یا خون، ناک۔ اسبل الدمع او لمطر کا اسم۔ ثیاب سَبَل: لٹکائے ہوئے کپڑے۔ السَبَلَة: جمع سِبَال: مونچھوں کے بال۔ اوپر کے لب کے درمیان کا دائرہ۔ داڑھی کا اگلا حصہ کہتے ہیں۔ جاءَ وَ قد نشرَ سَبَلَتَهُ: اس نے اکڑ دھمکی دی۔ جرّ سَبَلَتَهُ: اس نے اپنے کپڑے گھسیٹے۔ بعیر حَسَنُ السَبَلة: باریک کھال والا اونٹ۔ الأسْبَل من الرجال: لمبی مونچھوں والا آدمی۔ عینٌ سَبلاءُ: لمبی پلکوں والی آنکھ۔ امرأة سبلاء: مونچھوں والی عورت۔ المُسْبِل و المُسْبَل و المُسَبِّل و المُسَبَّل من الرجال: لمبی مونچھوں والا آدمی۔

۳۔ سَبَّلَ المالَ: مال کو اللہ کے راستہ میں لگانا، خیرات کرنا۔ و۔ الشیءَ: کو مباح کرنا۔ أسْبَلَتِ الطریقُ: راستہ کا بہت چلتا ہوا ہونا۔ السَبیل: جمع سُبُل و سُبْل و أسْبُل و أسْبِلة و سُبُول: راستہ یا کھلی سڑک (مذکر و مونث) اِبْنُ السبیل: مسافر سبیل اللّٰہ: جہاد، طلب علم، حج اور ہر امر خیر جس کا اللّٰہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ کہتے ہیں۔ لیس لک علیَّ سبیلٌ: تمہارے پاس میرے خلاف کوئی حجت نہیں۔ لیس علَیَّ فی کذا سبیل: اس بارے میں مجھ سے کچھ باز پرس نہیں، مجھ پر کچھ حرج نہیں، موقدوں کہتے ہیں۔ ماعلی المُحْسِن سبیل: محسن پر کوئی احتجاجی بحث نہیں۔ سبیلنا ان نفعل کذا: ہمارے لئے ایسا کرنا مناسب ہے۔ السبیلة: راستہ یا کھلا راستہ۔ السَابلة جمع سوابِل: بہت چلنے والا راستہ، اسی معنی میں کہتے ہیں۔ سبیل سابلة: نیز سَبیل سابلة سے راستہ پر چلنے والے بھی مراد لئے جاتے ہیں۔

۴۔ أسْبَلَ الزرعُ (ز): فصل کا خوشہ نکالنا۔ السَبَل: خوشہ، بالی۔ سَبَلٌ من رماحٍ: نیزوں، برچھیوں یا بلموں کا ایک گٹھا۔ السَبَلة و السُبُولة و السُوَلة: خوشہ کہتے ہیں۔ ملأ الاناءَ الی سَبَلَتِه: اسے برتن کو اوپر تک بھر دیا۔

○ سَبَّلَ الشیءَ: کو خیراتی مقاصد کے لئے وقف کرنا یا مخصوص کرنا۔ اسبل الشیَ: کو لٹکنے دینا، گرنے دینا، جیسے پردہ وغیرہ۔

○ سَبَل: اناج کی بالیاں واحد سَبَلة۔

○ سَبَلة: کھاد، گوبر سَبَلة جمع سِبَال مونچھیں۔

○ سبیل الی: کا ذریعہ، کے لئے ضروری، کا امکان۔

○ ابن السبیل: آوارہ گرد، بے خانماں، مارا مارا پھرنے والا مسافر۔

○ فی سبیلِ: کی خاطر، کے لئے، کے واسطے، کی مصلحت میں۔ بسبیلِ یا عن سبیلِ: بذریعہ، کے ذریعے، کے باعث، کے نتیجہ میں۔ علی سبیل التجربة: تجربہ کے طور پر آزمائشی طور پر۔ علی سبیل المثال: مثال کے طور پر۔ خلّی سبیله: کو جانے دینا، رہا کرنا۔ اَخْلَی سبیلهُ: کو جانے دینا، رہا کرنا ضاقت به السبل: اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، وہ بدحواس ہوگیا۔ لیس علیّ فی ذلك سبیل: مجھے ایسا کرنے سے روکنے کا کوئی جواز نہیں، میں ایسا کرنے میں آزاد ہوں، اگر میں ایسا کروں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

○ طریق سابلة: پبلک روڈ، شارع عام، وہ سڑک جس پر بکثرت آمد و رفت جاری رہے۔

○ السابلة: پاس سے گزرنے والے

○ مسبول: گرایا ہوا (پردہ)

○ الاسبان: اسپینی لوگ، اسپین والے اسبانی: سپین کا (رہنے والا)

○ سِبَنسة: جمع سِبَنسات: مال گاڑی

سبن: ۱۔ اَسْبَنَتِ المرأةُ: عورت کا ہمیشہ سیاہ تہبند باندھنا۔ السَّبَنِیَّةُ: عورتوں کا سیاہ تہبند۔

۲۔ السَّبْتُ و السَّبَنْتَة: عرصہ کہتے ہیں۔ اقمت عنده سبتا: میں اس کے پاس ایک عرصہ ٹھہرا رہا۔ السَبَنْتی جمع سَبَانِتُ و سَبَاتٍ: دلیر آگے بڑھنے والا۔ (ح) چیتا۔

سبه: ۱۔ سُبِهَ سَبَهًا و سُبَّهَ تَسْبِیْهًا: بڑھاپے کی وجہ سے ٹھیا جانا۔ مَسْبُوه و مُسَبَّه: بڑھاپے کی وجہ سے ٹھیایا ہوا۔ السَبَهُ: بڑھاپے کی وجہ سے عقل جاتی رہنا۔ رجلٌ سَبِهٌ و سَبَاه: متکبر مرد السُّبَاه: سکتہ۔ بڑھاپے کی وجہ سے عقل کا جاتا رہنا، بے عقلی، ٹھیا پن۔ رجل سَبَاهِیّ: بڑھاپے کی وجہ سے ٹھیایا ہوا۔ المُسَبَّه فصیح اللسان۔

۲۔ سَبَهْلَل: کہتے ہیں۔ جاء الرجلُ سَبَهْلَلاً: آدمی بغیر ہتھیار و ڈنڈے کے آیا، بے پرواہ ہو کر آیا یا بغیر کسی کام کے آیا۔ هو یمشی سَبَهْلَلاً: وہ بیکار آتا جاتا ہے۔

○ سَبَهْلَلاً: بے پروائی سے، بے مقصد، یونہی، اتفاق سے، بے سوچے سمجھے۔

○ سَبَاهِلَة: بے روزگار لوگ سست، کاہل، آرام طلب لوگ، آوارہ گرد، خدائی خوار، کوچہ گرد، ہرزہ گرد۔

سبی: ۱۔ سَبَی ۔ سَبْیًا و سِبَاءً العدوّ: دشمن کو قید کرنا، قیدی بنانا، گرفتار کرنا۔ — الرجُلَ: کو نکال دینا، جلا وطن کرنا۔ — الخمرَ: شراب کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جانا — فُلاناً: کسی کو دام محبت میں گرفتار کرنا۔ تَسَبّی فلانٌ لفلانٍ: کسی کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے اظہار محبت کر کے۔ تَسَابَی القومُ: ایک دوسرے کو قیدی بنانا۔ اِسْتَبَی اِسْتِبَاءً العدوّ: دشمن کو قید کرنا۔ — قلبَ فلان: کو اپنی محبت کا اسیر بنانا — الخمرَ: شراب کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا۔ السَبْیُ جمع سُبِیّ: قیدی کہتے ہیں۔ جاؤوا بسَبْیٍ کثیر: وہ بہت سے قیدی لیکر آئے۔ زیادہ تر اَسْرٰی کا لفظ مردوں کے لئے اور سَبْیٌ کا لفظ عورتوں کے لئے مخصوص ہے۔ سَبْیُ الحیّة: سانپ کی کینچلی۔ السَبِیّ: جمع سَبَایا: غلام، جنگی قیدی، لونڈی کہتے ہیں۔ غلام سَبِیٌّ و جاریة سَبِیٌّ: غلام (لڑکا) اور لونڈی (لڑکی) — و السَّبَاء: وہ لکڑی جس کو سیلاب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا ہو۔ سَبِیُّ الحیّة: سانپ کی کینچلی۔ السَبِیَّة: قیدی عورت ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائی گئی شراب۔ موتی۔

۲۔ سَبَی ۔ سَبْیًا و سِبَاءً الحافرُ الماءَ: کھودنے والے کا پانی تک پہنچنا۔

سبا: سَبَا (سَبَا کی ایک بولی) اس سے ضرب المثل ہے۔ ذهبوا او تفرقوا ایدی سبا و ایادی سبا: یعنی وہ ایسے متفرق ہوئے کہ پھر کبھی اکٹھے نہ ہو سکے۔

○ سَبَی ۔ سَبْیًا و سِبَاءً: قیدی بنانا قید کرنا، گرفتار کرنا، جنگ میں قید پر مجبور کرنا۔ — ہ و شیئًا: کو لبھانا، موہ لینا، فریفتہ کرنا، گرویدہ کرنا، پر جادو کر دینا، کو خوش کرنا، شیفتہ کرنا، کو دھوکا دینا، دھوکے سے کام لینا، کے دل میں شوق پیدا کرنا، شوق آفرین ہونا۔

○ سِبِیْدَاج، سِبِیْدَاج: سیندور (White lead)

سِبِیْدَاج: سیندور۔

○ س ت: سِجِل تِجاری کا مخفف تجارتی رجسٹر کاروباری کھاتہ۔

○ است: سرین، پٹھا، چوتڑ، پچھلی طرف ست۔

السَّتّ: عیب، بری گفتگو۔ السِتّة: (ج) چھ (مذکر کے لئے) سِت: (چھ مونث کے لئے) الساتّ: چھٹا۔

السِتُّون: ساٹھ (مذکر و مونث دونوں کے لئے)

○ سِتَّةَ عَشَرَ: سولہ مذکر کے لئے
○ سِتَّ عَشَرَةَ: سولہ مونث کے لئے
○ سِت: جمع سِتَّات لیڈی، بیگم، خاتون
○ سِت الحُسن: بلاڈر، بھلانواں (دواء)
(Belladonna)

ستر: ا- سَتَرَ - سَتْراً و سَتَراً و سَتَّرَ الشيءَ: کو چھپانا، ڈھانکنا۔ سَاتَرَ مُسَاتَرَةً ہُ العداوةَ: سے چھپی دشمنی رکھنا۔ تَسَتَّر و اِسْتَتَرَو اِنْسَتَرَ: ڈھکا رہنا، چھپنا، پوشیدہ ہونا کہتے ہیں (هو لا يستتر من اللّٰهِ بِسِتْرٍ) وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ السِّتْر جمع سُتُور وأَسْتَار: پردہ، خوف، حیاء کہتے ہیں۔ مالَهُ سِتْرٌ ولاحِجْرٌ: اسے نہ حیاوشرم ہے نہ عقل۔ هتك اللّٰه سِتْرَهُ: اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب اور برائیوں کو بےنقاب کردیا۔ السَّتَر (مص): ڈھال السِّتَار جمع سُتُر: پردہ مدَّ الليلُ سِتارَهُ: رات نے تاریکی کا پردہ پھیلا دیا۔ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ السِّتَارَة جمع سَتَائِر: پردہ السُّتْرة جمع سُتَر: پردہ، (عام زبان میں) ایک قسم کا لباس، ادباء اسے معطف کہتے ہیں۔ سُتْـرَـة السطح: چھت پر پردہ کی دیوار۔ السُّتْرَة جمع سِتَر و سِترات: جیکٹ، پٹی دارکوٹ، روئی چغہ۔ بَـالْـطو جمع بـالْـطَوات: (اوورکوٹ) کو بھی کہا جاتا ہے۔ السَّتَّار: ساتر سے اسم مبالغہ (بہت چھپانے والا) صفات خداوندی سے ہے۔ السَّتِير: چھپا ہوا، پاکدامن، کہتے ہیں۔ رجُلٌ ستیـر و امرأة ستیره جمع سُتَرَاء: جیسے قتلاء و شہداء۔ شَجرٌ ستیر: بہت شاخوں والا درخت۔ المَسْتُور (مفع) جمع مستورون و مَسَاتِير: پاکدامن، مستورات۔ الـزَهْـر (ن): نباتاتی شاخ جس میں اعضاء تناسل پوشیدہ ہوتے ہیں۔ المستَر و الاستارة: پردہ جاريةٌ مُسَتَّرةٌ: پردہ نشین عورت۔

۲- الاستار جمع اَسَاتِر و اَسَاتِير في العدد چار۔ في الوزن: چار مثقال

○ سَتَرَہ / ہ عن: کو سے چھپانا۔ سَتَرَہُ / ہ عن: کو بچانا، کی حفاظت کرنا، پناہ دینا (سے یا کے خلاف) سَتَرَ علی ہ: کو کچھ معاف کردینا۔
○ سِتر جمع سُتُور و اَسْتَار: نقاب، بُرقع، پردہ، سکرین، کھڑکی کا پردہ، ڈھکنا۔ کور، (فوجی) حفاظت، پناہ، ڈھال، بہانہ، عذر، معذرت، اعتذار۔
○ سُتَرِی: مسخرہ، بھانڈ، نقال۔
○ سِتَار جمع سُتُر: نقاب، برقع، پردہ، سکرین، ڈھکنا پوشش، پوش، بہانہ، عذر، معذرت، اعتذار۔ الستار الحديدی: آہنی پردہ۔ الستار الفضّی: سینما سکرین۔ ستار من النار (النیران): (توپوں کی باڑھ (فوج)۔ رَفَعَ الستار عن الشیء: کسی چیز کو ظاہر کرنا، افشا کرنا، منظر عام پر لانا، بےنقاب کرنا۔ (کسی یادگار کی) نقاب کشائی کرنا۔ مِن وراء الستار: پردے کے پیچھے (behind the scenes) (مجازا) بیک سٹیج۔

○ سِتَارة جمع ستائر: وہی معنے جو اوپر ستر اور ستار کے تحت درج کئے گئے ہیں۔
○ تَسَتَّر: کور (عسکری)
○ ساتِر: سکرین، فولڈنگ سکرین۔
○ مَسْتُور: چھپا ہوا، غیر مرئی، نقاب پہنے ہوئے، پاکدامن، پارسا، نیک، عفیف۔
○ مَسَاتِير: پوشیدہ اور خفیہ باتیں۔
○ مُتَسَتِّر: گمنام، غیر معروف۔ مُسْتَتِر: پوشیدہ، چھپا ہوا، پنہاں دیا ہوا، خوابیدہ (Letent) محذوف، مقدر (Unders tood) کے مفہوم میں۔
○ سَتَّفَ ہ: (اشیاء کا) ڈھیر لگانا، انبار لگانا، کو حفاظت کے لئے ایک جگہ رکھنا، قرینے سے رکھنا۔
○ تستيف: انبار لگانا، قرینے سے رکھنا، گودام۔
○ سَتْه و سِتْه و سَتَہ جمع استار: مقعد، چوتڑ، پشت۔

ستق: السُّتُّوق والسَّتُّوق: کھوٹا جعلی درہم۔ المُسْتُقَة و المُسْتَقَة: دراز آستین کی پوستین، چنگ وغیرہ بجانے کا آلہ (فارسی لفظ)۔

ستل: ا- سَتَلَ - سَتْلاً و تَسَاتَلَ و اِنستل و اِسْتَتَلَ القومُ: ایک دوسرے کے پیچھے سلسلہ وار نکلنا۔ ــــ اللُّؤلُؤُ: موتیوں کا لگاتار بکھرنا۔ ــ الدمعُ: آنسو کا قطرے قطرے ٹپکنا۔ سَاتِل: قطرے قطرے ٹپکنے والا (آنسو) سَتِـلَ - سَتَلاً ہُ: کی پیروی کرنا۔ سَاتَل ہُ: کی پیروی کرنا۔ المُسْتَل جمع مَسَاتِل: تنگ راستہ۔

۲- السَّتَل جمع سُتْلان و سِتْلان (ح): عقاب یا اس کے یا گدھ کے مشابہ پرندہ۔ السُّتَالَة: ردی چیز۔

ستن: أَسْتَنَ الرجلُ في السنة: کا قحط سالی میں پڑنا۔ الأُسْتَن و الأُسْتَان: بوسیدہ درخت کی جڑیں۔ الاسْتُون (آع): پستول وغیرہ کی نالی۔

سته: سَتَہَ - سَتْهاً الرجُلَ: کے پیچھے لگنا کے سرین پر مارنا۔ السَّتْهُ والسِّتْهُ والسَّتَهُ جمع أَسْتَاه (ع ا): سرین۔ الأَسْتَه والسُّتَاهی جمع سُتْه و سُتْهان و سَتَاهی م سَتْهاء: موٹے سرین والا۔

ستا: ا- سَتَا - سُتُوًا: جلدی کرنا۔

۲- سَتَّی و أَسْتَی الثوبَ: کپڑا بننے کے لئے تانے کو پھیلانا۔ السَّتَا: کپڑے کا تانا۔ سَتَاةُ الثوب: کپڑے کا تانا کہتے ہیں۔ ما انت لحمةٌ ولا سَتَاةٌ: تو نہ نفع کا ہے نہ نقصان کا۔ تو بےضرر ہے۔ الأُسْتِيُّ: کپڑے کا تانا، تانا تنا ہوا کپڑا۔

۳- الستا: بھلائی کہتے ہیں۔ نال منه ستًا: اس نے اس سے بھلائی پائی۔

سج: ا- سَجَّ - سَجّاً: کو پتلا پاخانہ آنا ــ الحَائِطَ: دیوار لیپنا۔ السَّجَّة والسَّجَاج: بہت پانی والا دودھ۔ السُّجُج: لیپی ہوئی چھتیں، نیک نفوس۔ المِسَجَّة (ب): لپائی کے کام میں آنے والا لکڑی کا ایک اوزار۔

۲- السَّجسَج جمع سَجَاسِج و سَجاسيج: زمین جو نہ سخت ہو نہ نرم، فجر اور سورج نکلنے کا درمیانی عرصہ کہتے ہیں۔ يومٌ سَجْسَجٌ: وہ دن جس میں نہ تو تکلیف دینے والی گرمی ہو اور نہ ہی سخت سردی۔ هواءٌ سَجْسَجٌ: معتدل ہوا۔ رِيحٌ سَجْسَجٌ: معتدل اور نرم ہوا۔

سجح: ا- سَجَحَ - سُجُحاً تِ الحمامَةُ: کبوتری کا گوگو کرنا۔

۲- سَجَحَ - سَجْحًا و سَجَّحَ لهُ بكلام: کے ساتھ اشارہ اور کنایہ سے بات کرنا۔

۳- سَجِحَ - سَجَحًا و سَجَاحَةً: معتدل لمبائی والا ہونا، کم گوشت والا ہونا۔ ــ الخدُّ: رخسار کا نرم و ملائم ہونا۔ ــــ خُلقُهُ: نرم اخلاق ہونا۔ کہتے ہیں۔ في عقله رجاحةٌ و في خُلُقه سجاحة: اس کی عقل میں پختگی اور اخلاق میں نرمی ہے۔ اَسْجَحَ الوالی: اچھی طرح معاف کرنا۔ ــ الرجلُ: نرم و لطیف کلام والا ہونا کہتے ہیں۔ اذا سالتَ فاسْجِحْ: یعنی سوال کرو تو نرم اور دلپسند الفاظ بولو۔ اِنْسَجَحَ له بكذا: اسے وہ چیز دیدی گئی۔ السُّجُح: نرم و آسان کہتے ہیں۔ رَجلٌ سُجُحٌ: خوش خلق آدمی۔ ــ السُّجُحُ: راستہ اور اسکا وسطی حصہ۔ السَّجيح: نرم و آسان۔ السَّجْحَة و السَّجيحة: خلق، خصلت فطرت۔ طبیعت، رکب سجيحةَ رأيه: وہ اپنے لئے ایک رائے پسند کر کے اس پر کاربند ہوگیا۔ السُّجَاح: ہوا۔ الأَسْجَح م سَجْحَاء: جمع سُجْح: خوبصورت مناسب اعضاء والا۔

۴- السِّجَاح: سامنے کہتے ہیں۔ جلستُ سِجاحَ وجهه: میں اس کے (منہ کے) سامنے بیٹھا۔ السُّجُح: اندازہ کہتے ہیں۔ بيوتهم على سُجُح واحد: ان کے گھر ایک ہی اندازہ کے ہیں۔ السَّجيحَة: اندازہ

سجد: ا- سَجَدَ - سُجُوداً: عاجزی و خاکساری سے

جھکنا، عبادت میں پیشانی و ناک زمین پر رکھنا۔
ساجد :عاجزی اور خاکساری سے جھکنے والا، عبادت میں پیشانی وناک زمین پر رکھنے والا، ساجد جمع سُجَّد و سُجُود: مؤنث ساجدہ جمع ساجدات و سَواجد۔ ساجدُ المَنخَر : خاکساری کرنے والا۔ ذلیل وپست۔ عینٌ ساجدةٌ: جھکی ہوئی آنکھ۔ نَخلَةٌ ساجدةٌ: جھکا ہوا کھجور کا درخت۔ أَسْجَدَ: سر جھکانا، ـــ عَيْنَهُ: نگاہ نیچی رکھنا۔ المِسْجَدة: سَجَدَ کا اسم المِسْجَاد: بہت سجدے کرنے والا۔ السَّجَّادة و المِسْجَدة: جائے نماز، مصلی المَسْجَد جمع مَساجِد: آدمی کی پیشانی۔ و المسجد جمع مَساجد: سجدہ گاہ، عبادت گاہ، مسجد۔ المسجدان: مکہ کی مسجد اور مدینہ کی مسجد۔

۲۔ سَجِدَ۔ سَجَداً تِ رِجْلُهُ: پاؤں کا سوجنا۔ أَسْجَد: جس کا پاؤں سوجا ہوا ہو۔

○ سَجَدَ لِ: کے سامنے جھکنا و ـــ لله: اللہ کی عبادت کرنا۔ سَجَّاد: جمع سجادون: عابد سَجْدَة جمع سَجَدات: عبادت میں ماتھا زمین پر ٹیکنا۔ احد السَّجدة: ایسٹر کے بعد کا ساتواں اتوار، سفید اتوار (مسیحی اصطلاح) سُجُود: زمین پر ماتھا ٹیکنا، سجدہ، عبادت، نیز ساجد کی جمع۔ سَجَّادة (اسم جمع) سَجَّاد جمع سجاجید: نماز پڑھنے کا نمدہ، قالین صاحب السجّادہ و شیخ السجادہ: سجادہ نشین (درویشی سلسلہ کے سربراہ کا لقب)۔ مَسجدٌ جامعٌ: جامع مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ المسجد الحرام: مکہ معظمہ کی مسجد۔ المسجد الأقصیٰ: قدس شریف کی مسجد۔

سجر: سَجَرَ۔ سَجْراً التَّنورَ: تنور کو ایندھن سے گرم کرنا۔ ـ الماءَ النهرَ: پانی کا نہر کو بھرنا۔ البحرُ: سمندر کا جوش مارنا۔ ـــ الماءَ فی حلقه: پانی حلق میں ڈالنا، سَجَّرَ الماءَ: پانی جاری کرنا۔ ـــ التنورَ: تندور میں لکڑیاں ڈال کر گرم کرنا۔ سُجِّرِ البحرُ: سمندر کا جوش مارنا چڑھنا اور اس میں لہریں اٹھنا۔ اِنْسَجَرَ الاناءُ: برتن کا بھرنا۔ بئرٌ سَجْر: بھرا ہوا کنواں۔ السُّجْرة جمع سُجَر: نہر کو بھر دینے والا پانی۔ الساجر (فا): ہر جگہ کو بھر دینے والا سیلاب۔ وہ علاقہ جہاں سیلاب آکر پھیل جائے۔ السَّجُور و المِسْجَر: تنور کو گرم کرنے کا ایندھن (لکڑیاں وغیرہ) المَسْجَر: دریا وغیرہ کا پانی جو تہ نشین ہوگیا ہو۔ المَسْجُور (مفع): ساکن اور بھرا ہوا، خالی (ضد)، وہ دودھ جس میں پانی کا حصہ اس سے زیادہ ہو۔ لُؤلُؤَةٌ مَسْجُورَة: بہت آبدار موتی۔

۲۔ سَجَرَ۔ سَجْراً الکلبَ: کتے کے گلے میں لکڑی باندھنا۔ الساجُور جمع سَواجِیر: لکڑی جو کتے کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے۔ اسی سے ہے۔ سَوْجَرَ الکلبَ: یعنی اس نے کتے کے گلے میں لکڑی لٹکائی۔ کہتے ہیں۔ فی اعناقهم سواجیر: ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔

۳۔ سَجَرَ۔ سَجْراً و سُجُوراً تِ الناقةُ: اونٹنی کا لمبی آواز نکلنا۔ سَجَّرتِ الناقةُ: اونٹنی کا لمبی آواز نکالنا۔ السَّجْر (مص): رعد کی آواز۔

۴۔ سَجَرَ۔ سَجْراً الشیءَ: چیز کو بھیجنا۔ اِنْسَجَرت الإبلُ فی سیرها: اونٹوں کا آگے پیچھے ایک قطار میں چلنا۔ شعرٌ مُسَجَّر و مُنْسَجِر: لٹکے ہوئے بال۔ اللُّؤلُؤُ المسجُور: پروئے ہوئے موتی۔ لڑی سے بکھرے ہوئے موتی۔

۵۔ ساجَرَهُ: کا مخلص دوست بننا۔ السَّجِیر جمع سُجَراء: مخلص دوست۔

۶۔ السَّجَرُ و السُّجْرة فی العین: آنکھ کی سرخی۔ الأَسْجَر م سَجْراء: جس کی آنکھ میں سرخی ہو۔ خالص کیچڑ والا تالاب۔

○ سَجَرَ۔ هُ: شئی یا تنور وغیرہ گرم کرنا۔ سَجَّرَهُ: پانی کو کناروں سے بہانا۔ مُسَجَّر: لمبے لٹکتے (بال)

○ سِجارة جمع سجارات سَجَایِرُ و سَجَایِر: سگرٹ۔

سجس: سَجِسَ۔ سَجَساً الماءُ: پانی کا گدلا اور متغیر ہونا۔ سَجْسٌ و سَجِسٌ و سَجِیس: گدلا اور متغیر (پانی) سَجِسَ المنهلُ: چشمہ کے پانی کا بدبودار اور خراب ہونا۔ السَّجَس (مص): فساد، خرابی، گدلاپن۔ السَّجیس: گدلا کہتے ہیں۔ لا آتیكَ سَجِیسَ اللیالی: میں تیرے پاس کبھی نہیں آؤنگا۔

سجع: سَجَعَ۔ سَجْعاً الخطیبُ: مقرر کا مقفی تقریر کرنا۔ ساجع (سَجَّاع و سجّاعة): مُقفّی تقریر کرنے والا (خطیب) ـــ تِ الحمامةُ: فاختہ یا کبوتر کا کوکو کرنا۔ ساجعةٌ و سُجُوعٌ جمع سُجَّع و سَواجع: کوکو کرنے والی (فاختہ یا کبوتر) ـــ تِ الناقةُ: اونٹنی کا لمبی آواز نکلنا۔ اسی طرح کمان کا لمبی آواز نکالنا۔ سَجَّعَ الخطیبُ والحمامةُ: مقرر کا مقفی تقریر کرنا، مقرر کا مقفی تقریر کرنا اور فاختہ یا کبوتر کا کوکو کرنا۔ (تشدید مبالغہ کے لئے ہے) وجهٌ ساجعٌ: اچھی ساخت کا معتدل چہرہ۔ ناقةٌ ساجعةٌ: طرب و مستی میں آواز نکالنے والی اونٹنی۔

السَّجع جمع أَسْجاع: مقفی کلام۔ السَّجْعة الأُسْجُوعة ج أَساجیع: قافیہ دار کلام کا ایک ٹکڑا۔

۲۔ سَجَعَ۔ سَجْعاً فلانٌ ذلك المسجَعَ: کا ارادہ ہونا، کی نیت ہونا، چاہنا۔ الساجع (فا): کلام یا رفتار میں درمیانی چال چلنے والا (اسکی ضد جائر ہے) المَسجَع: مقصد

○ سَجَعَ: فاختہ یا کبوتر کا کوکو کرنا۔ مقفی: نثر میں بات کرنا۔ سَجَّعَ: مقفی نثر میں بات کرنا۔ سَجْع: مقفی نثر۔ سَجْعَة: مقفی نثر کا ایک ٹکڑا۔ ساجِعٌ: مقفی نثر میں بات کرنے والا۔

سجف ۱۔ سَجَفَ۔ سَجْفاً و سَجَّفَ البیتَ: مکان پر پردہ لٹکانا۔ اَسْجَفَ السِترَ: پردہ چھوڑنا۔ ـــ البیتَ: مکان پر پردہ لٹکانا۔ ـ اللیلُ: رات کی تاریکی کا پھیل جانا۔ السَّجْف والسِجف جمع سُجُوف وَأَسْجاف و السِجاف و السَّجیف: بیچ سے چرا ہوا پردہ۔ دو پردے بیچ سے کھلے ہوئے عام طور پر پردہ کہتے ہیں۔ أرخی اللیلُ سُجُوفَهُ: رات نے اپنی تاریکی پھیلادی۔ السِجاف: گوٹ۔ السِجافة: پردہ۔ حجاب السُّجْفَةَ: رات کی ایک گھڑی کہتے ہیں۔ مضتْ سُجْفةٌ من اللیل: رات کی ایک گھڑی گزرگئی۔

۲۔ سَجِفَ۔ سَجَفاً: پتلی کمر والا اور نحیف پیٹ والا ہونا۔

○ سُجْفٌ و سِجفٌ جمع أَسْجاف و سُجُوف: پردہ، برقع۔ سِجاف: جمع سُجُف: پردہ، برقع، نقاب۔

سجل: ۱۔ سَجَلَ۔ سَجْلاً الماءَ: پانی گرانا، ڈالنا۔ ـ به: کو اوپر سے پھینکنا۔ سَجَّلَ بالشيءِ: کو اوپر سے پھینکنا۔ ساجَلَ مُساجَلةً و سِجالاً هُ: رفتار یا شعر گوئی میں کسی سے مقابلہ کرنا۔ اَسْجَلَ: بڑا صاحب خیر ہونا۔ هُ: کو بہت بخشش دینا۔ ـ الحوضَ: حوض کو بھرنا، لبریز کرنا۔ ـــ الکلامَ: آزادانہ بولنا۔ ـ الناسَ: کو چھوڑ دینا۔ ـ لهم الامرَ: لوگوں کو کوئی معاملہ سپرد کر دینا۔ ان کے لئے مباح کر دینا اسی سے ہے۔ وهذا مُسْجَلٌ له ان شاء اخذه وان شاء ترکهُ: اسے اس امر میں کھلی چھٹی ہے۔ ـــ الانعام فی الزرع: چوپایوں کو کھیتی میں چھوڑ دینا۔ تَساجَلا: ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ آپس میں مقابلہ کرنا۔ اِنْسَجَلَ: اوپر سے گرنا۔ کہتے ہیں۔ سَجَلَ الماءَ فانسجل: اس نے پانی گرایا اور وہ گرا۔ السَّجل (مص) جمع سِجال و سُجُول: بڑا ڈول جس میں

تھوڑا بہت پانی ہو۔ ڈول بھر، بخشش، فیاض آدمی۔ بڑا تھن۔ حصہ۔ کہا جاتا ہے: اعطاہ سَجْلَهُ من كذا: اس نے اس کو فلاں چیز سے اس کا حصہ دیا۔ کہتے ہیں۔ الحرب بينهم سِجَالٌ : یعنی لڑائی کا پانسہ پلٹتا رہتا ہے۔ آج ایک کو غلبہ ہے تو کل دوسرے کو۔ عينٌ سَجُولٌ: آنکھ جو بہت آنسو بہائے۔ السَجِيل: نصیب حصہ کہتے ہیں۔ اعطاه سَجِيْلَهُ من كذا: اس نے اسے کا حصہ دیا۔ ضرعٌ سَجِيل: لٹکا ہوا بڑا تھن۔ دلوٌ سَجِيلٌ و سَجِيْلَةٌ: بڑا ڈول ناقةٌ سَجْلاَء: بڑے تھنوں والی اونٹنی۔ المُسْجَل: ہر ایک کے لئے مباح کہتے ہیں۔ فعلناه و الدهرُ مُسْجَل: ہم نے اس کام کو اس وقت کیا جب کوئی کسی سے نہ ڈرتا تھا۔

۲۔ سَجَّلَ الكتابَ: کتاب لگا تار پڑھنا۔ — الرجلُ: عہد نامہ لکھنا۔ الاوراقَ: مجکموں وغیرہ میں اوراق ضبط تحریر میں لانا۔ — القاضی علیه: قاضی کا اس کے خلاف فیصلہ دینا۔ و — علیه بكذا: کو بدنام کرنا (کی وجہ سے)۔ — له بماله: (کو) کیلئے ثابت کرنا۔ السِجِلّ جمع سِجِلاَّت: معاہدات کا رجسٹر، احکام و دعوں کے ضبط کرنے کا رجسٹر۔ جوڈیشنل ریکارڈ۔

۳۔ شیءٌ سَجِيلٌ: بہت سخت چیز۔ السِجِّيل: کنکر۔ سنگ گل۔ السَوْجَل و السَوْجَلَة اور السَاجُول جمع سَوَاجِيل: شیشی کا ڈھکن۔ کور۔

○ سَجَّلَ ہ: کا اندراج کرنا، کو درج کرنا، کو لکھنا، ضبط تحریر میں لانا، ریکارڈ کرنا، نوٹ کرنا، ریکارڈ میں رکھنا، سرکاری ریکارڈ کے لئے بیان تیار کرنا، کی دستاویز بنانا، کی گواہی دینا۔ سَجَّلَ اِصابةً: ضرب کا نمبر لینا، سکور کرنا، ریکارڈ کرنا۔ سَجَّلَ ہ فی الشرائطِ المُسَجَّلَة: ٹیپ پر ریکارڈ کرنا، کو ٹیپ ریکارڈ کرنا۔" (کھلاڑی کا) ریکارڈ قائم کرنا، (ایجاد وغیرہ) پیٹنٹ کروانا۔ سَجَّلَ علی نفسه أن: کچھ کرنے یا ہونے کی وجہ سے ریکارڈ پر ہونا۔ سَاجَلَهٗ: کا حریف یا رقیب ہونا، سے ہمسری یا برابری کا دعویٰ کرنا، سے مقابلہ کرنا، سے مباحثہ کرنا، بحث کرنا، جھگڑا کرنا۔ سَاجَلَه الحديثَ: کو گفتگو پر آمادہ کرنا، سے مذاکرات کرنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔

○ سِجِلّ جمع سِجِلاَّت: لپٹا ہوا کاغذ، طومار، رجسٹر، فہرست، اشاریہ۔ سجلات: تاریخی دستاویزات۔ السِجِلّ التجاری: تجارتی رجسٹر۔ السجل الذهبی: سنہری کتاب۔ سجل الزیارات: وزیٹروں کی کتاب۔ مہمانوں کی کتاب۔ سجل التشريفات: ملاقاتیوں کی فہرست (ڈپلومیٹک اصطلاح) سجل (یاسجلات) الأطيان، السجل العقاری: زمینوں کا رجسٹر۔ اراضی کا رجسٹر۔

○ تسجيل جمع تسجيلات: اندراج کرنا، اندراج، رجسٹریشن، ڈوکومنٹیشن، تصدیق، بکنگ، ریکارڈنگ، ٹیپ ریکارڈنگ، رجسٹری (ڈاک کی) تسجيل عقاری: زمینوں کے رجسٹر میں اندراج۔ آلة تسجيل الصوت: ٹیپ ریکارڈنگ۔ مُسَاجَلَة: مقابلہ مسابقہ، مقابلہ میں حصہ لینا، بات چیت، گفتگو، بحث مباحثہ۔ مُسَجِّل جمع مسجلون: رجسٹرار، وثیقہ نویس، ناظر رجسٹری۔ Notary public۔ مُسَجِّل: جمع مُسَجِّلات: ٹیپ ریکارڈر شریط مُسَجِّل جمع شرائط مُسَجِّلَة: میگنیٹک ٹیپ۔ مُسَجِّل الكُلِيَّة: کالج کے شعبہ کا سیکرٹری۔ مُسَجَّل: رجسٹرڈ، درج شدہ، ریکارڈ شدہ منضبط، ضبط تحریر میں لایا ہوا۔ رسالةٌ مُسَجَّلة: رجسٹرڈ لیٹر (خط) مُراسَلات مُسَجَّلَة: رجسٹرڈ (ڈاک) اطنانٌ مُسَجَّلة: رجسٹرڈ ٹن۔ حَفْلَةٌ مُسَجَّلَةٌ: ریکارڈ شدہ موسیقی کی سنگت۔ concert of recorded music۔

سجم: سَجَمَ ـُ سُجُومًا و سِجَامًا الدمعُ: آنسو بہنا۔ ساجم: بہنے والا آنسو۔ و ـِ سَجْمًا و سُجُومًا و سَجَمَانًا تِ العينُ او السحابةُ الماءَ: آنکھ کا آنسو یا بادل کا پانی بہانا۔ سَجَّمَ تَسْجَامًا و تَسْجِيمًا الماءَ: پانی گرانا۔ اَسْجَمَ الماء: پانی گرانا، ڈالنا۔ — ت السحابةُ: بادل کا دیر تک برسنا۔ انْسَجَمَ الماءُ: پانی کا گرنا، بہنا۔ — الكلامُ: کلام کا مرتب ہونا۔ تَسَاجَمَ تِ الدموعُ: آنسو کا گرنا، بہنا۔ السَجَم: پانی، آنسو۔ عينٌ سَجُوم جمع سُجُوم: آنسو بہانے والی آنکھ ناقةٌ سَجُوم: بہت دودھ دینے والی اونٹنی ناقةٌ مِسْجَام جمع مَسَاجِيم: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ مكانٌ مَسْجُومٌ: وہ جگہ جہاں بارش برسی ہو۔ الإنْسِجَام: مصدر اِنْسَجَمَ و ـ عند البديعيين: کلام کا پیچیدگی سے خالی ہونا، آسان ترکیب والا ہونا، شیریں کلمات پر مشتمل ہونا، تکلف سے دور ہونا، دلوں پر اثر انداز ہونے والا ہونا اور پُر تاثیر ہونا۔

۲۔ سَجَمَ ـُ سَجْمًا و سُجُومًا عن الامر: بات میں دیر کرنا، ٹالنا، سے کترانا۔

○ انسَجَمَ: کلام کا رواں ہونا، شستہ ہونا، شیریں ہونا، ہم آہنگ ہونا۔ انسجم مَعَ: سے ہم آہنگ ہونا، کے مطابق یا موافق ہونا۔ اِنْسِجَام: روانی، ہم آہنگی، دلکش شیریں، یا سریلا نغمہ، ترتیب، مُنْسَجِمٌ: ہم آہنگ، شیریں، مطابق موافق۔

سجن: سَجَنَ ـُ سَجْنًا ہُ: کو قید کرنا، جیل میں محبوس کرنا۔ — الهمَّ: غم کو چھپانا۔ السِجْن جمع سُجُون: جیل، قید خانہ۔ السَجَّان: داروغہ جیل، جیلر۔ السَجِين جمع سُجَنَاء سَجْنَى م سَجِين و سَجِينة جمع سَجْنَى و سجائن: قیدی۔ ضربٌ سَجِين: ایسی مار جو پٹنے والے کو زمین سے ہلنے نہ دے۔ السَاجِنَة جمع سَوَاجِن: ساجن کا مونث۔

۲۔ سَجَنَ الشيءَ: کسی چیز کو پھاڑنا۔

۳۔ السَاجِنه جمع سَوَاجِن: پہاڑ میں پانی بہنے کی جگہ۔ السِجِّين: دائم سخت۔ کہتے ہیں۔ جاء سِجِّينًا: وہ علانیہ آیا۔

۴۔ السَجَنْجَل جمع سَنَاجِل: آئینہ چاندی کا ٹکڑا یا اینٹیں۔

○ سَجْن: نظر بندی، قید، حراست۔ سَجِين جمع سُجَنَاء و سَجْنَى: جیل کا ساتھی، سزا یافتہ، سزایاب۔ مَسْجُون جمع مَسَاجِين: قیدی، ساتھی قیدی، سزا یافتہ، سزایاب۔

سجا: ا۔ سَجَا ـُ سَجْوًا و سُجُوًّا الليلُ: رات کا خاموش ہونا، سنسان ہونا، ہمیشہ رہنا۔ — تِ الناقةُ: اونٹنی کا لمبی آواز نکالنا۔ سَجَّى تَسْجِيَةً الميتَ: مردہ پر چادر ڈالنا۔ اسی سے ہے۔ سَجِّ معايبَ اخيكَ: اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالو، چھپاؤ۔ أَسْجَى الرَجُلُ: آدمی کا کوئی چیز ڈھانپنا، چھپانا۔ — البحرُ: سمندر کی موجوں کا ساکن ہونا۔ — تِ الناقةُ: اونٹنی کا زیادہ دودھ والی ہونا۔ السَاجِي (فا): ساکن۔ نرم۔ کہتے ہیں۔ عينٌ سَاجِيَة: ساکن تھکی ماندہ جھکی ہوئی آنکھ۔ لَيْلَةٌ سَاجِيَة: سنسان رات۔ اِمْرَأَةٌ سَجْوَاء الطرف: غیر متحرک آنکھ والی عورت۔ ناقةٌ سَجْوَاء: دودھ دینے کے وقت آرام سے کھڑی رہنے والی اونٹنی۔ رِيْحٌ سَجْوَاء: نرم ہوا۔ السَجِيَّة جمع سَجِيَّات و سَجَايا: طبیعت، خصلت خُلق۔

○ سَجَا يَسْجُو سَجْوًا و سُجُوًّا: (رات، سمندر) کا خاموش اور پرسکون ہونا۔ تَسَجَّى ہ: (کوئی لباس، کپڑا وغیرہ) اوڑھ لینا۔ سَجِيَّة جمع سجيات و سَجَايَا: طبیعت، مزاج، خو، افتاد طبع، ذہنیت، فطرت، فطرت خصائل، کردار سیرت، اخلاق، اخلاقی قوت جمع سَجِيَّات و سَجَايا: خصوصیت، وصف،

امتیازی وصف، طرۂ امتیاز۔ ـــ عن سجیة: ازخود، خود بخود، آپ ہی آپ بیساختہ ساجن: خاموش پرسکون تاریک (رات) مُسَجّٰی: کفنائی ہوئی لاش وہ لاش جس کی تجہیز وتکفین ہو چکی ہو۔

۲- سَاجٰی هُ: کو چھونا کہتے ہیں۔ اتانا بالطعام فما ساجیناه: وہ ہمارے پاس کھانا لایا مگر ہم نے اس کو نہیں چھوا۔

سح: ۱- سَحَّ - سُحًّا: بہت موٹا ہونا۔ و- الماءَ: پانی کو لگاتار بہت بہانا۔ اسی سے ہے۔ اِسْتَنْشَدْتُهُ قصیدةً فَسَحَّهَا علیَّ سَحًّا: میں نے اسے شعر سنانے کے لئے کہا تو اس نے لگاتار بغیر رکے اشعار سنائے۔ ـــ هُ: کو مارنا۔ کہتے ہیں۔ سَحَّه مائة سوط: اس نے اسے سو کوڑے مارے۔ ـــ سَحًّا و سُحُوحًا: بہت بہنا۔ ـــ ـِ سُحُوحًا و سُحُوحَةً تِ الشاةُ: بکری کا موٹاپے کی وجہ سے ایسا چربی دار ہونا گویا کہ چربی اس سے ٹپکی پڑتی ہے۔ ساحٌّ و ساحّةٌ جمع سِحَاح و سُحَاح: خوب موٹی اور خوب چربی دار (بکری)۔ تَسَحَّحَ: بہت بہنا۔ اِنْسَحَّ اِبطُ البعیر عرقًا: اونٹ کی بغل سے پسینہ بہنا۔ السَّحاح: ہوا۔ غارةٌ سَحَّاء: دشمن پر اچانک مصیبت لانے والی لوٹ مار، حملہ۔ عینٌ سَحَّاحة: بہت آنسوؤں والی آنکھ۔ سحابةٌ سَحُوح: بہت بارش لانے والا بادل ـ فرسٌ مِسَحٌّ: عمدہ تیز رفتار گھوڑا۔

۲- السَّحُّ و السُّحُّ: خشک متفرق کھجور، خرما۔

۳- تَسَحْسَحَ الماءُ: پانی کا اوپر سے بہنا۔ السَّحْسَح والسَّحْسَاح من المطر: شدید بارش، گھر کا صحن۔

○ سَحَّ - سُحًّا و سُحُوحًا: بہنا، چلنا، پانی کی دھار گرنا۔ سَحَّتِ السماءُ: موسلا دھار بارش ہونا۔ عینٌ سَحَّاحَةٌ: اشکبار آنکھ۔

سحب: ۱- سَحَبَ - سَحْبًا هُ: کو زمین پر گھسیٹنا کہتے ہیں۔ جاء یسحب ذیلَهُ: وہ مغرورانہ چال سے آیا۔ سَحَبَ السیفَ: تلوار سونتنا۔ اسی سے ہے۔ سحبُ اوراق المعاملات: دستاویز وغیرہ مرتب کرنا لکھنا۔ سحبُ الیانصیب: لاٹری نکالنا، قرعہ اندازی کرنا۔ اِنْسَحَبَ: زمین پر گھسٹنا۔ السُّحْبَة: آنکھ پر آجانے والا پردہ جو نظر کو کمزور کرتا ہے۔ السَّحاب جمع سُحُب: واحد سَحابة جمع سَحائب: بادل کہتے ہیں۔ اقمتُ عنده سحابةَ یومنا: میں نے سارا دن اس کے پاس قیام کیا۔

۲- سَحَبَ - سَحْبًا الرجلُ: بہت کھانا پینا۔ تَسَحَّبَ من الاکلِ او الشرب: بہت کھانا یا پینا۔

۳- تَسَحَّبَ فی حق فلان: کسی کا حق غصب کر کے اپنے میں ملا لینا۔

۴- تَسَحَّبَ علیه: پر ناز کرنا۔

۵- السُّحْبةُ و السُّحابة: تالاب میں باقیماندہ پانی۔

۶- السَّحْبَل: فراخ وادی، بڑی مشک، بڑا پیٹ۔

○ سَحَبَ - سَحْبًا: زمین پر گھسٹتے ہوئے چلنا۔ سَحَبَ هُ: کو گھسیٹنا۔ ـــ ه و ه: کو (کوئی اقدام، حکم وغیرہ) واپس لے لینا۔ ـــ هم عن: (فوجیوں) کو سے واپس کرنا یا سے نکال لینا۔ سحب منه ه: سے کوئی چیز لے لینا، ہتھیا لینا، کو سے بیدخل کرنا کو سے محروم کرنا۔ (الماءَ): پانی نکالنا۔ ـــ (ه): روپیہ پیسہ حساب سے نکلوانا۔ دستاویز وغیرہ مرتب کرنا، لکھنا، لاٹری نکالنا۔ ـــ ه علی: (قانون وغیرہ) کو کسی پر لاگو کرنا، چسپاں کرنا، منطبق کرنا۔ سحب العمل به علی: کو پر منطبق کرنا۔ اِنْسَحَبَ: گھسٹنا کوشش کرنا۔ اِنْسَحَبَ من: سے پسپا ہونا، سے نکل آنا سے واپس آجانا۔ انسحب علی: قانون کا کسی پر لاگو ہونا، چسپاں ہونا منطبق ہونا۔ سحب: (فوجوں کی) پسپائی یا واپسی (اقدامات کا) واپس لینا، (حقوق سے) پیچھے ہٹنا۔ (مال) نکلوانا۔ سَحَابَةَ: کے دوران سحابةَ النهار (الیوم): سارا دن آج سارا دن۔ سرنا سحابةَ یومنا: ہم تمام دن چلتے رہے ہیں۔ سحابةَ اربعة قرون: چار صدیوں کے دوران۔ سَحَّاب: زپ zipper slide انسحاب: واپسی، پسپائی، سے نکل آنا، انخلا (عسکری) استعفا، دست برداری، پھیلاؤ، وسعت، اضافہ۔ ساحِب: (چیک) کاٹنے والا المسحوب علیه: جس کے نام چیک کاٹا جائے۔

سحت: ۱- سَحَتَ - سَحْتًا و سَحَّتَ: حرام مال کمانا۔ أَسْحَتَ تجارتَهُ: تجارت میں کھوٹ اور حرام مل جانا هُ: کو خراب کرنا۔ السُّحْت و السُّحُت: جمع اَسْحَات: حرام۔ حرام و ناجائز کمائی، نجس و ناپاک کمائی، جس سے عار لازم آئے مثلاً رشوت۔

۲- سَحَتَ - سَحْتًا هُ: کو ہلاک کرنا اور بیخ و بن سے اکھیڑنا۔ ذبح کرنا سَحَتَ الشَّحْمَ عن اللحم: چربی کو گوشت سے چھیل کر علیحدہ کرنا۔ وجهَ الارضِ: کو مٹانا۔ سَحَّتَ هُ: کو ہلاک کرنا، بیخ و بن سے اکھیڑنا، ذبح کرنا۔ أَسْحَتَ هُ: کو ہلاک کرنا، بیخ و بن سے اکھیڑنا۔ أُسْحِتَ: کا مال تباہ ہونا۔ رجلٌ سُحُتٌ: بہت کھاؤ اور سیر نہ ہونے والا آدمی۔ مالٌ سُحْتٌ و سُحُتٌ: تلف شدہ مال، ہلاک شدہ مال۔

السَّحْت (مص): بوسیدہ کپڑا، دکھ، عذاب کہتے ہیں۔ مالُه او دمُهُ سحتٌ: اس کا مال یا خون تلف کرنے والے کے لئے حلال ہے۔ عامٌ اُسْحُتٌ وارضٌ سَحْتَاء: خشک سال اور روئیدگی سے خالی زمین۔ رجلٌ سَحِیتٌ: بہت کھاؤ اور سیر نہ ہونے والا آدمی۔ مالٌ سَحِیتٌ: تلف شدہ مال، ہلاک شدہ مال۔ السَّحِیتة جمع سَحائت: سب کچھ بہا لے جانے والا بادل۔ مالٌ مُسْحَتٌ: تلف شدہ ہلاکت شدہ مال۔ مالٌ مَسْحُوتٌ: تلف شدہ، ہلاکت شدہ مال۔ مَسْحُوتُ الجوفِ او المعدةِ: نہ سیر ہونے والا، بدہضمی سے تکلیف اٹھانے والا (ضد) السُّحْتُوت و السُّحْتِیّ: پرانا کپڑا۔

۳- السُّحْتُوت و السِّحْتِیت: کم چکنائی اور زیادہ پانی والا استو، تھوڑی چیز۔

○ سُحْت و سُحُت جمع اُسْحَات: ممنوع اور پابندی لگی ہوئی چیز، حرام کا مال، حرام کی جائیداد۔

سحج: سَحَجَ - سَحْجًا و سَحَّجَ هُ: کو چھیلنا ـــ الشیءَ بالشیءِ: ایک چیز کو دوسری چیز سے رگڑ کر چھیلنا۔ مَسْحُوج و سَحِیج: چھیلی ہوئی (چیز) تَسَحَّجَ اِنْسَحَجَ: چھلنا السَّحَّاج: بہت چھیلنے والا۔ زمنٌ سَحَّاج: سخت زمانہ جو ہر شئے کو چھیل ڈالے۔ المِسْحَج: بہت کاٹنے والا۔ المِسْحَاج بمعنی مِسْحَج: لکڑی کاٹنے کا چاقو وغیرہ۔ زمنٌ مِسْحَاجٌ: سخت زمانہ۔

۲- سَحَجَ - سَحَجَانًا الدابّةُ: جانور کا بہت تیزی سے ذرا کم دوڑنا۔ السَّحُوج: بہت قسمیں کھانے والی عورت، قسم کھانے کی عادت والی عورت۔ المِسْحَجُ من الدواب: تیز چلنے والا جانور۔ المِسْحَاج بمعنی سَحُوج ـ من الدوابّ: بمعنی مِسْحَج۔

○ سَحَجَ - سَحْجًا (ه): کو چھیلنا، تراشنا، چھیل کر اتارنا، دور کرنا۔ ـــ ه: (کھال) چھیلنا، رگڑ ڈالنا، کھرچ دینا۔ ـــ ه: کو اتار دینا۔ سَحَّجَ ه: کو چھیلنا، رگڑ ڈالنا، اتار دینا، تراشنا۔ مِسْحَج جمع مَسَاحِج: رندہ مِسْحَجَة جمع مَسَاحِج: رندہ کرنے والی مشین، رندہ کرنے والا مَسْحُوج: (کھال کی خراش کی طرح) تکلیف دہ، یا جہاں سے گوشت نکل آیا ہو۔

سحر: سَحَرَ - سَحْرًا هُ: کو دھوکا دینا، پر جادو کرنا، کو فریفتہ کرنا، رجھانا، لبھانا، لٹو کرنا، کا دل چرانا۔ ـــ هُ عن كذا: کو سے پھیرنا، سے دور کرنا ہٹانا۔ ـــ عن الامر: کسی معاملہ سے دور رہنا ـــ الفضّةَ: چاندی پر

سونے کا گلٹ کرنا۔ ـــ سَحَرًا المطرُ الطینَ: بارش کا مٹی کو خراب کرنا۔ سَحَّرَہٗ: پر جادو کرنا۔
السِحر (مص) جمع أَسْحار و سُحُور: وہ چیز جس کا ماخذ لطیف و باریک ہو۔ جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانا، حیلہ بازی، فساد، ہر وہ چیز جس کے حصول میں شیطانی تقرب سے مدد لی جائے کہتے ہیں۔ ان من البیان لسِحرًا: تقریر ایک جادو ہے۔ السِحرُ الکلامی: کلام کی رنگین بیانی جو دلوں پر گہرا اثر ڈال کر خیالات میں انقلاب پیدا کر دے اور جادو کا سا رنگ دکھائے۔ الساحِر (فا) جمع سَحَرۃ و سُحّار و سَحّار و ساحِرُون م الساحرۃ جمع ساحرات و سَوَاحر: جادوگر، عالم۔ السَحّار: بمعنی ساحر۔ المُسَحَّرُ: خوف زدہ، جادو کیا ہوا۔ المَسْحُور (مفع): خراب شدہ کھانا، بارش کی زیادتی یا کسی اور سبب سے ناکارہ و خراب جگہ۔ ارضٌ مَسْحُورۃ: بنجر زمین۔ عَنْزۃٌ مُسْحُورۃ: کم دودھ والی بھیڑ۔

۲۔ سَحَرَ - سَحْرًا ہٗ: کے پھیپھڑے پر مارنا۔ مَسْحُور و سَحِیر: جس کے پھیپھڑے پر ضرب لگائی گئی ہو۔ سَحِرَ - سَحَرًا: ڈول وغیرہ کے کھینچنے سے پھیپھڑے کا کٹ جانا۔ سَحِرٌ، سَحِیرٌ: ایسا شخص جس کا پھیپھڑا ڈول وغیرہ کھینچنے سے کٹ گیا ہو۔ السَحْر و السَحَر و السُحْر جمع سُحُورٌ و سُحُرٌ و اسحارٌ (ع ا): پھیپھڑا کہتے ہیں۔ انتفخ سَحْرُہٗ: وہ بزدل ہو گیا (گویا خوف نے اس کا پیٹ بھر دیا تو اس کا پھیپھڑا پھول گیا۔) مات فلانٌ بین سَحْرِی و نَحْرِی: وہ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے فوت ہو گیا۔ انقطع منہُ سَحْرِی: اس سے وابستہ میری امید ٹوٹ گئی۔ میں اس سے ناامید ہو گیا۔ السُحارَۃ (ع ا): پھیپھڑا۔ ـــ من الشاۃ: بکری کے پھیپھڑے اور نرخرہ جسے قصائی جدا کر لیتا ہے۔ عوام اس کو المِعْلاق و القَصَبۃ کہتے ہیں۔ المُسَحَّر: جس کا پھیپھڑا نکال دیا گیا ہو۔

۳۔ سَحَرَ - سَحْرًا: صبح سویرے آنا۔ سَحَّرَہٗ: کو سحری کھلانا یا دینا۔ أَسْحَر: صبح کے وقت جانا، صبح ہونا۔ تَسَحَّرَ: سحری کھانا۔ اِسْتَحَر: صبح ہونا یا صبح کو روانہ ہونا۔ ـــ الدیکُ: مرغ کا صبح کو بانگ دینا۔ السَحَر جمع أَسْحار: صبح سے کچھ پہلے رات کا آخری حصہ۔ ہر چیز کا کنارہ۔ ـــ الاعلیٰ: صبح کاذب۔ ـــ الآخر: صبح صادق۔ السَحَرِیُّ و السَحَرِیَّۃ: صبح سے کچھ پہلے کا وقت۔ السُحْرَۃ: صبح کاذب۔ السَحور: سحری کا کھانا و پینا۔

۴۔ سَحَرَہٗ: کو کھانا دینا اور بار بار پلانا۔ السحِیر: موٹے پیٹ والا، پیٹ کی بیماری والا۔

۵۔ السَوْحَر (ن): بید کا درخت۔

○ سَحْر و سُحْر جمع سُحُور و اَسْحار: پھیپھڑے۔ جسم میں وہ جگہ جہاں پھیپھڑے ہوتے ہیں۔ سِحر: لبھانا، رجھانا، فریفتہ کرنا، دھوکا دینا، دھوکے سے کام لینا، مسحوری، سحرزدگی، جادو سحر، دل کشی، دلربائی۔ جمع اسحار و سُحُور: جادو، جادوگری، سحر، افسون، فسوں طرازی، کالا علم، شعبدہ بازی (عورت کا) حسن و جمال، دل آویزی، دلبری و دلربائی۔ سِحْری: جادو کا۔ فانوسٌ سِحری: جادو کی لالٹین Magic lantern سلائڈ (فلم) پروجیکٹر Slide projector۔ سَحّارہ جمع سَحّارات: زمین دوز بدرو۔ جمع سجاحیر: کیس، کریٹ، پٹی، صندوق۔

سحط: سَحَطَ - سَحْطًا و مَسْحَطَاۃً ہٗ: کو جلدی سے ذبح کرنا۔ ـــ ہُ الطعامُ: کو کھانے سے پھندا لگنا۔ شاۃٌ سَحِیطٌ و سحوطۃ: ذبح شدہ بکری۔ المَسْحَط: حلق۔

۲۔ سَحَطَ - سَحْطًا و مسحطاً الشرابَ: شراب میں پانی ملانا۔

۳۔ سَحَطَ - سَحْطًا و مسحطًا السَخْلَ: بکری کے بچے کو اسکی ماں کے ساتھ کھلا چھوڑنا۔

۴۔ اِنْسَحَطَ من یدہ: ہاتھ سے پھسل کر گرنا۔ ـــ عن النخلۃ و نحوھا: کھجور وغیرہ کے درخت سے لٹکنا اور اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے بغیر اترنا۔

سحف: ۱۔ سَحَفَ - سَحْفًا الشعرَ عن الجلد: بال کو کھال سے چھیلنا۔ ـــ و۔ الرأسَ: سر مونڈنا۔ ـــ تِ الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو اڑا لے جانا۔ اَسْحَفَ السَحْفَۃَ: پیٹھ کی چربی فروخت کرنا۔ ـــ تِ الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو اڑا لے جانا۔ السُحاف (طب): سل کی بیماری۔ السَحْفَۃ جمع سِحاف: پیٹھ کی چربی۔ السَحُوف: ہر چیز کو بہا لے جانے والی تیز بارش۔ ناقۃٌ سَحُوف: بے چربی والی اونٹنی، زیادہ چربی والی اونٹنی۔ السَحِیفَۃ جمع سَحائف: ہر چیز کو بہا لے جانے والی تیز بارش۔ چھیلی ہوئی چربی۔ مَسْحَفُ الحیّۃ: زمین پر سانپ رینگنے کے نشانات۔ المِسْحَفۃ: گوشت اور چمڑا چھیلنے کے اوزار۔ ارض مسحفۃ: باریک گھاس والی زمین۔ رجل مَسْحُوف: سل کی بیماری والا۔

۲۔ ناقۃ سَحُوفٌ: بے چربی والی اونٹنی جس کے تھن لمبے ہوں اور تھنوں کے سوراخ تنگ۔ السَحِیف: آٹا پیسنے کی چکی کی آواز جب وہ چکی آٹا پیس رہی ہو۔ دودھ دوہنے کی آواز۔

سحق: ۱۔ سَحَقَ - سَحْقًا ہٗ: کو خوب کوٹنا، باریک کرنا۔ ـــ الشیءَ الشدیدَ: سخت چیز کو نرم کرنا۔ ـــ تِ الریحُ الارضَ: ہوا کا تندی کی وجہ سے زمین کو چھیل ڈالنا۔ ـــ الرأسَ: سر کو مونڈنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کو پرانا کرنا، پھٹا پرانا کرنا۔ ـــ تِ العینُ دمعھا: آنکھ کا آنسو بہانا۔ سَحُقَ - سُحُوقۃً الثوبُ: کپڑے کا پرانا ہونا، پھٹا پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا۔ سَحَّقَ: سَحَق کا مبالغہ کا صیغہ۔ اَسْحَقَ الثوبُ: کپڑے کا پھٹا پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا۔ کپڑے کا نیا ہونے پر بھی رواں جھڑ جانا۔ ـــ خُفُّ البعیرِ: اونٹ کی ٹاپ کا گھس جانا۔ ـــ و۔ الضرعُ: تھن کا دودھ سے خالی ہو کر اور سکڑ کر پیٹ سے لگ جانا۔ اِنْسَحَقَ: باریک ہونا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا نیا ہوتے ہوئے رواں جھڑنا۔ ـــ تِ الدلوُ: ڈول میں کچھ نہ رہنا۔ ـــ القلبُ: دل کا شکستہ و ذلیل ہونا۔ السَحْقُ (مص) ج سُحُوق: بوسیدہ، پھٹا پرانا کپڑا کہتے ہیں۔ ثوبٌ سَحْقٌ و سَحْقُ ثوبٍ: صفت اور اضافت کے ساتھ بمعنی پھٹا پرانا کپڑا کہتے ہیں۔ سحقُ درھم: جعلی، کھوٹا درہم۔ مِسْکٌ سحیقٌ: باریک پسی ہوئی مشک۔ السَحِیقَۃ جمع سَحائق: تیز بارش جو ہر چیز کو بہا لے جائے جس پر اس کا گزر ہو۔ السَحّاقۃ: بہت پیسنے والا۔ المِسْحَق: جس چیز سے پیسا جائے۔ دَمْعٌ مُنْسَحِق جمع مَساحیق: (نادر) بہتا آنسو کہتے ہیں۔ جرت من عینہ مَساحیقُ الدموعِ: اسکی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو جاری ہوئے۔

۲۔ سَحَقَ - سَحْقًا ہٗ: کو ہلاک کرنا۔ ـــ القملۃَ: جوں کو مار ڈالنا۔ أَسْحَقَ ہٗ: کو ہلاک کرنا۔ تساحقا: ایک دوسرے کو مار ڈالنا، ہلاک کر دینا۔

۳۔ سَحَقَ - سَحْقًا اللّٰہُ: اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے۔ سَحِقَ - سُحْقًا: دور ہونا۔ سَحُقَ - سُحْقًا: دور ہونا۔ و۔ سُحُوقَۃً تِ النخلۃُ: خرما کے درخت کا لمبا ہونا۔ سَحُوق جمع سُحُق: (خرما کا) لمبا درخت۔ أَسْحَقَ ہٗ: کو دور کرنا۔ ـــ الرجلُ: دور ہونا۔ اِنْسَحَقَ الشیءُ: چیز کا دور ہونا، وسیع ہونا۔ السُحْقُ و السُحُق: دوری کہتے ہیں۔ سُحْقًا لہٗ: اللہ اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ (سحق: مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے معنی ہے۔) سَحَقَہٗ سحقاً۔ السَحِیق: دور، بعید۔ السَحِیقَۃ جمع سَحائق: سحیق کا مونث۔ الأَسْحَق: بعید،

دور۔ السوحَق: لمبا، لمبا آدمی۔

○ سَحَق ہ / ہ: کو پیسنا، کچل ڈالنا۔ ہ: کو خراشنا، رگڑنا، کا سفوف بنانا، کا پاؤڈر بنانا (فوج وغیرہ) کو نیست و نابود کرنا، برباد کرنا، تباہ کرنا، فنا کرنا، کا نام و نشان مٹاڈالنا، کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا۔ سَحَّقَ: نیست و نابود کرنا وغیرہ، کچل ڈالنا، تباہ کرنا۔ تَسَحَّقَ وانسحق: پسنا، کچلا جانا، خراش آنا۔ سُحقًا له: جائے جہنم میں، جائے بھاڑ میں، مرے کمبخت! سحیق: دور، بعید، گہرا، اتھاہ، بے پایاں۔ سِحاق و مُساحقة: نسوانی ہم جنس پرستی۔ Lesbianism انسحاق القلب: ندامت، پشیمانی، توبہ۔ مَسحُوق جمع مساحیق: پاؤڈر مَسحُوق الفحم: کوئلے کا چورا Coal Dust مُنسَحِقُ القلب: نادم، پشیمان، متاسف، تائب۔

سحل: سَحَلَ - سَحلاً الشیءَ: کو چھیلنا، پیسنا، کوٹنا، کاٹنا، تراشنا۔ ہُ مائةَ سوطٍ: کو سو کوڑے مارنا۔ سَحلاً و سُحولاً تِ العینُ: آنکھ کا رونا۔ ساحَلَ القومُ باولادهم: اولاد کو ساحل پر لانا۔ انسحل: چھلنا، پسنا، باریک ہونا، کٹنا، تراشا جانا۔ تِ الدراهمُ: درہموں کا چمکدار ہونا۔ السّاحِل جمع سَواحِل: ساحل، سمندر کا کنارہ۔ السُّحالَةُ: سونے یا چاندی کا برادہ، گیہوں اور جو وغیرہ کی بھوسی۔ گھٹیا لوگ، اراذل۔ المِسحَل جمع مَساحِل: سنگ تراشی کا اوزار، چھلنی جلاو، بہت بارش۔ المَسحُول (مفع): ہموار کشادہ جگہ۔ الأساحِل: پانی بہنے کی جگہیں، نالیاں۔

۲۔ سَحَلَ - سَحلاً الرجلَ: کو گالی دینا، ملامت کرنا۔ ساحَلَ ہُ: ایک دوسرے کو گالی دینا، ملامت کرنا۔ أُسحِلَ ہُ: کو گالی خوردہ پانا۔ انسَحَلَ بالکلام: بات چیت جاری کرنا۔ المِسحَل جمع مَساحِل: زبان، فصیح مقرر۔

۳۔ سَحَلَ - سَحلاً الثوبَ: کپڑے کو کچے دھاگے سے بننا۔ - الحبلَ: ایک لڑی کی رسی بٹنا۔ السَّحل (مص): جمع أسحال و سُحول و سُحُل و السحیل: کچے سوت سے بنا ہوا کپڑا۔ ایک لڑی کی بٹی ہوئی رسی۔ المَسحَل جمع مَساحِل: ایک لڑی کی بٹی ہوئی رسی۔

۴۔ سَحَلَ - سَحلاً الغریمَ مائةَ درهمٍ: قرض خواہ کو سو درہم نقد ادا کرنا۔

۵۔ سَحَلَ - سَحِیلاً و سُحالاً البغلُ: خچر کا ہنہنانا۔

۶۔ السِحال: لگام۔ السُّحلَةُ (ح): اپنی ماں سے جدا ہونے والا چھوٹا خرگوش۔ الاسحِل (ن): وہ درخت جس سے مسواکیں بنائی جائیں۔

المِسحَل جمع مَساحِل: لگام، بہادر، چست ساقی، پختہ ارادہ، گمراہی۔ (کہتے ہیں رکب فلان مِسحَلَهُ: فلاں شخص نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا)۔ خسیس آدمی، شیطان، داڑھی کا کنارہ، توشہ دان کا منہ، بہت پانی والا پرنالہ۔ شابٌّ مُسحَلانٌ و مُسحُلانیٌّ م مُسحُلانَةٌ و مُسحُلانیة: سیدھے یا لمبے بالوں والا نوجوان۔ المَسحُول: چھوٹا حقیر۔

۷۔ السَّحلَب: ثعلب مصری، ثعلب مصری سے تیار کردہ کھانا۔

○ سُحالة: برادہ سِحلِیَة جمع سَحالِ: چھپکلی، چلپاسہ۔ مِسحَل جمع مَساحِل: رندہ، ریتی، ہموار کرنے والا اوزار۔

سحم: سَحِمَ - وَ سَحُمَ - سُحمًا: کالا ہونا، سیاہ ہونا۔ اسحَم م سَحماء جمع سُحم: کالا، سیاہ۔ سَحَّمَ وجهَهُ: کے چہرے کو کالا کرنا۔ اسحَمَتِ السماءُ: آسمان کا پانی برسانا، برسنا۔ السِّحَمُ: لوہا۔ السِّحَمَةُ: لوہے کا ٹکڑا۔ السُّحَم: لوہار کے ہتھوڑے۔ السُّحام و السِّحام و السُّحمَة: سیاہی کالک۔ الأسحَم: سر پستان، سیاہ بادل، سینگ، شراب کی مشک، وہ خون جس میں قسم کھانے والے ہاتھ ڈبوتے ہیں۔

سحن: ا۔ سَحَنَ - سَحنًا الحجرَ: پتھر توڑنا۔ - الخشبةَ: لکڑی کو رگڑ کر نرم و ملائم کرنا۔ - الشیءَ: کو پیسنا، باریک کرنا۔ المِسحَنة جمع مَساحِن: پتھر توڑنے کا اوزار۔

۲۔ ساحَنَ ہُ: سے ملاقات کرنا، ملنا، سے اچھی طرح پیش آنا، کے رنگ و روپ اور چہرہ مہرہ کو دیکھنا۔ ہُ الشیءَ: کسی چیز میں شرکت کرنا۔ تَسَحَّنَ ہُ: کے رنگ و روپ اور چہرہ مہرہ کو دیکھنا۔ السُّحنَة و السَّحنَة والسَّحناء والسِّحناء: رنگ و روپ، کھال کی نرمی اور آب و تاب۔

○ سَحَنَ - سَحنًا ہ: کو پیسنا، کچلنا، رگڑ کر نرم کرنا۔ سَحنَة و سَحَنة جمع سَحَنات و سُحَن: ظاہری شکل، وضع قطع، صورت شکل، چہرے کا اظہار، سج دھج، چال ڈھال۔ مِسحَنَة: جمع مساحن: دستہ (جیسے ہاون دستہ)

سحا - سَحیاةُ: کو چھیلنا۔ - الطینَ: مٹی کو کھرچنا۔

ساحٍ جمع سُحاة وساحُون م ساحیة: کھرچنے والا۔ - الشعرَ: بال مونڈنا۔ اِستَحَی اِسحاءَ الشیءَ: کو چھیلنا - الشعرَ: بال مونڈنا۔ السّاحِیَة: سیلاب، شدید بارش۔ السَّحّاء: بیلچے بنانے والا۔ السِّحایَة: چھیلن۔ بادل کا ٹکڑا، بیلچہ بنانے کا پیشہ۔ الأُسحُوان: بہت کھانے والا پیٹو۔ المِسحاة جمع مَساحٍ: بیلچہ، کدال۔

۲۔ سَحا - سَحوًا و سَحیً تَسحِیَةً و أَسحَی اِسحاءً الکتابَ: کتاب کی باریک چمڑے سے جلد باندھنا۔ السِّحاء جمع أسحِیَة: واحد سِحاءَةٌ من الکتاب: کتاب کی جلد کے لئے باریک چمڑا۔ السِّحاءَة جمع سَحایا والسِّحایَة (ع ا): دماغ کی جھلی۔

۳۔ اِستَحَیَ منه: سے شرمانا، حیاء کرنا (مادہ حی میں مذکور ہے)

۴۔ السّاحة جمع سُوحٌ: صحن، کھلی جگہ، جانب الأُسحُوان: خوبصورت دراز قد۔

سخّ: ا۔ سَخَّ - سَخًّا تِ الجرادةُ: ٹڈی کا زمین میں دم چبھونا۔ - فی السیر أو الحفر: دور تک چلنا یا کھودنا۔ السَّخاخ: نرم، عمدہ زمین۔

۲۔ السخاسخ: نرم، عمدہ زمین۔

سخب: السَّخَب: شور السِّخاب: جمع سُخُب: لونگوں کا ہار۔ کہتے ہیں وجَدَتُكَ وارث السخاب: میں نے تجھے بچہ کی طرح نا سمجھ پایا۔

سخت: ا۔ اِسخاتَ اِسخیتاتًا الجرحُ: زخم کے ورم کا ہلکا ہونا۔ السُّخت: گوبر۔ السَّخت والسَّخیت: سخت المَسخُوت: چکنا، چمکیلا۔

۲۔ السِّختیان والسَّختیان: بکری کی رنگی ہوئی کھال۔

سخر: ا۔ سَخَرَ - سِخریًّا و سُخریًّا و سَخَّرَهُ: سے بیگار لینا، کو مغلوب کرنا، کو ذلیل کرنا۔ سَخِرَ - سَخرًا و سَخَرًا و سُخرًا و سُخُرًا و سُخرَةً و مَسخَرًا به و منه: سے ٹھٹھا کرنا۔ "انا اقول هذا ولا أسخر" میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ سنجیدگی سے سچ بات کہہ رہا ہوں۔ تَسَخَّرَ و اِستَسخَرَهُ: سے بیگار لینا۔ - به و منه: سے ٹھٹھا کرنا۔ السُّخرَة: جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔ بیگاری، بیگار، رضاکارانہ کام۔ (عام بول چال میں) السُّخَرَة: جو لوگوں سے ٹھٹھا کرے۔ السُّخرِیّ والسُّخرِیَّة: سخر کا اسم بیگار، ٹھٹھا۔ مخول السُّخرِیّ: ٹھٹھا، بیگار۔ المَسخَرَة: وہ جس سے ٹھٹھا کیا جائے (عام بول چال میں)۔

۲۔ سَخَرَ - سَخرًا تِ السفینةُ: کشتی کا اچھی رفتار سے چلنا۔ ساخِرَة جمع سَواخِر: اچھی رفتار سے چلنے والی (کشتی)۔

○ سَخِرَ - سَخَراً و سَخْراً و سُخْراً سُخُراً و سُخْرَةً و مَسْخَراً ب یامن: کی ہنسی اڑانا، پر ہنسنا، کا مذاق اڑانا، پر فقرے کسنا، پر پھبتی کسنا، کا منہ چڑانا، کی تضحیک کرنا، سے مذاق کرنا، کو چھیڑنا۔ سَخَّرہ ہ/ ل: کو کا زیر نگیں کرنا، محکوم بنانا، تابع فرمان کرنا کا یا کے مقصد کے لئے)۔ ہ لِ: کے لئے کارآمد بنانا۔ کے لئے کام کے قابل بنانا۔ ــــ ہ لِ: کے لئے کام پر لگانا، استعمال میں لانا، کا مصرف ڈھونڈنا، کے لئے مفید بنانا، کے لئے استعمال کرنا۔ ــــ ہ / ہ لِ: کے لئے سے پوری طرح استفادہ کرنا، پورا استعمال کرنا۔ تَسَخَّرہُ: کو غلام بنانا، زیر کرنا، مغلوب کرنا، زیر نگین کرنا۔ سُخْرة: اُضحوکہ، تمسخر کا نشانہ، بیگار، خواہ مخواہ کی مصیبت یا بلا، قانونی مزدوری، جبری مزدوری یا محنت۔ رجالُ السُخرہ: زرعی غلام زمین کے ساتھ بک جانے والے غلام، کاشتکار۔ أعمالُ السُخرة: جبری محنت غلاموں سے لی جانے والی مزدوری۔ سِخْرِی: اُضحوکہ، تمسخر کا نشانہ، جبری مزدوری یا محنت، قانونی مزدوری، بیگار۔ مَسْخَرَة جمع مَسْخَرات و مَسَاخِر: مہمل، بیہودہ، احمقانہ، مضحکہ خیز، بہروپی ناچ، اُضحوکہ، تمسخر کا نشانہ۔ مُسَخِّر: بے انصاف، ظالم۔

سخط: سَخِطَ - سَخَطًا الرجلَ وعلیه: پر غضبناک ہونا۔ ــ الشیَ: کو ناپسند کرنا۔ اسْخَطَ ہُ: کو غضبناک کرنا۔ تَسَخَّطَ ہُ: سے ناراض ہو کر غیظ و غضب میں آنا اور اسے ناپسند کرنا۔ ــ ہُ العطاءَ: بخشش کو کم سمجھنا۔ السُخْط و السُخُط والسَخَط: ناراضگی، غصہ۔ المَسْخَط والمَسْخَطَة جمع مَسَاخِط: غصہ میں لانے والی چیز، باعث غضب۔ المَسْخُوط (مفع): مکروہ، ناپسندیدہ کہتے ہیں۔ امرٌ مَسْخُوط: ناپسندیدہ بات۔

○ سِخِطَ - سَخَطاً ہُ/ ہ/ علی: پر برہم ہونا، جھنجھلانا، غصہ ہونا۔ ــــ ہ / علی: سے ناخوش ہونا، ناراض ہونا۔ ــــ ہ/ علی: پر برا منانا۔ أسْخَطَ ہ: کو ناخوش کرنا، تلخ بنانا میں تلخی پیدا کرنا، کو غصہ دلانا، اشتعال دلانا، بھڑکانا، غضبناک کرنا۔ تَسَخَّطَ: بمعنی سخط۔ سُخْط و سُخُط و سُخَط: ناخوشی، بے اطمینانی، برہمی، خفگی، غصہ، آزردگی، جھلاہٹ، سخت غصہ، اشتعال، غضب، طیش، قہر، تلخی، بغض، کینہ۔ مَسْخُوط: قابل نفرت، ناپسندیدہ، نفرت کیا گیا، کریہ، نفرت انگیز۔

سخف: سَخُفَ - سُخْفًا و سَخَافَةً: کمزور عقل والا ہونا۔ سَخَّفَ ہُ: کو کم عقل ٹھہرانا۔ سَاخَفَ ہُ: کی حماقت میں مدد کرنا۔ السُخْف والسَخْف: عقل کی کمزوری۔ السُخْفَة والسَخْفَة: کم عقلی کہتے ہیں۔ هذا من سُخْفَة عقلك: یہ تمہاری کم عقلی کی وجہ سے ہوا۔ السَخِیف: کم عقل، کمزور عقل والا۔ رجلٌ سخیف: کم عقل آدمی۔ سخیفُ العقل: ناقص العقل۔ رأیٌ سَخِیف: کمزور رائے۔

۲۔ سَخُفَ - سُخْفًا و سَخَافَةً الغزلُ: دھاگے کا باریک ہونا۔ ـــ السقاءُ: مشک کا کمزور ہونا، پھٹنا۔ السَخْف: تنگ گزارہ کی زندگی۔ السُخْفَة والسَخْفَة: لاغری، کمزوری۔ ثوبٌ سَخِیفٌ: گھٹیا، کتائی والا کپڑا۔ سحابٌ سخیف: باریک بادل۔ السخافة (مص): ہر چیز کی کمزوری۔ ارضٌ مُسْخِفَة: کم گھاس والی زمین۔

○ سَخُفَ - سُخْفًا و سَخَافَةً: کمزور ہونا (عقل کا)، بیوقوف ہونا، احمق ہونا، کند ذہن ہونا، غبی ہونا۔ سَخْف و سُخْفٌ: کمزوری عقل، کم عقلی، سادہ لوحی، سخیف: بیہودہ، بیوقوف، احمق، سادہ لوح۔ سَخَافَة جمع سخافات: بیوقوفی، حماقت، احمقانہ حرکت، بچگانہ شوخی۔

سخل: سَخَلَ - سَخْلاً ہُ: کو نکال دینا۔ أسْخَلَ الأمرَ: کو موخر کرنا، پیچھے ڈالنا۔ السَخْلُ من القوم جمع سُخَّل و سُخَّال رذیل السَخَالَة: بیکار سمجھ کر پھینکی ہوئی چیز، بچا کھچا، بقیہ۔ المَسْخُول: فرد مایہ، گمنام اسی سے ہے۔ کواکب مسخولہ: نامعلوم ستارے۔

۲۔ سَخَلَ - سَخْلاً الشیَ: چیز کو دھوکے سے لینا۔

۳۔ سَخَّلَ ہُ: پر عیب لگانا، کو کمزور کرنا۔ السُخَّل جمع سُخَّل و سُخَّالٌ: کمزور۔ السَخْلَة جمع سَخْل و سِخَال و سُخْلَان و سِخْلة: بکری کا بچہ۔

سخم: ا۔ سَخِمَ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ ـــ اللّٰهُ وَجْهَه: اللہ تعالیٰ کا کسی کو سیاہ رو کرنا۔ ـــ السَخَم: سیاہی۔ السُخْمَة: سیاہی۔ السُخَام: کوئلہ، ہانڈی کی سیاہی، پرندہ کے بازوؤں کے نیچے کے نرم و ملائم پر (ز)۔ بعض پودوں کے پتوں کو لگنے والی بیماری جس سے وہ کالے پڑ جاتے ہیں، جیسے ہانڈی کالی ہو جاتی ہے۔ ـ والسخَمی والسُخامِیّة: خوشگوار شراب۔ لیلٌ سُخَام: تاریک، اندھیری رات۔ السُخامِیَ: سیاہ الأسْخَم م سَخْمَاء جمع سُخْم: سیاہ۔

۲۔ سَخَّمَ ہُ بصدرہ: کو غضبناک کرنا۔ تَسَخَّمَ علیه: سے کینہ رکھنا، پر غضبناک ہونا۔ السُخْمَة: نفرت، غصہ۔ السَخِیمَة جمع سَخَائِم: کینہ کہتے ہیں۔ سللتُ سَخِیمَتَهُ باللطف والترضی: میں نے لطیف انداز سے کینہ اس کے دل سے نکال دیا۔ المُسَخَّم (مفع): کینہ ور۔

۳۔ سَخَّمَ الماءَ: پانی گرم کرنا۔

○ سَخَّمَ ہ: کو کالا کرنا، دھوئیں سے کالا کرنا۔ سخّم بصدرہ: کو برہم کرنا، برافروختہ کرنا، غصہ دلانا۔ تسخّم علیه: سے نفرت کرنا، کے خلاف کینہ رکھنا، سے ناخوش ہونا۔ سُخَام: کالک، کلونس۔

سخن: ا۔ سَخَنَ - سُخُونَةً و سَخَانَةً و سَخْنًا و سُخْنًا و سُخْنَةً: گرم ہونا، عام لوگ سَخَنَ سے مراد بیمار ہونا لیتے ہیں۔ و۔ سَخَنَاہُ بالضرب: کو تکلیف دہ مار مارنا چنانچہ ما أسْخَنَ ضربَهُ کا معنی ہے اس کی مار کتنی تکلیف دہ ہے۔ سَخِنَ - سُخُونَةَ و سَخَانَةً و سَخْنًا و سُخْنًا و سُخْنَةً: گرم ہونا۔ و۔ سَخْنًا و سُخُونًا و سُخْنَةً ت عینُه: آنکھ کا تکلیف سے جلنا۔ سَخُنَ - سُخُونَةً و سَخَانَةً و سَخْنًا و سُخْنًا و سُخْنَةً: گرم ہونا۔ سَخَّنَ الشیَ: کو گرم کرنا۔ أسْخَنَ الشیءَ: کو گرم کرنا۔ کہتے ہیں: أسخن عینه و بعینه: اس نے اس پر ایسی مصیبت ڈال دی جس نے اسے رلا دیا۔ السَاخِن (فا): جمع سُخَّان م سَاخِنَة: گرم۔ لیلة ساخِنَة: گرم رات، مریض (عام بول چال میں) السُخْن والسَخْنَان و السُخْنَان والسَخْنَان: گرم السَخْن و السَخْنَة والسُخْنَة والسِخْنَة والسَخَنَة: بخار، گرمی، کہتے ہیں۔ علیك بالامر عند سُخْنته: معاملہ کو شروع میں ہی قابو کر لو۔ السُخَاخِین: گرم ماءٌ سُخَاخِین: گرم پانی۔ السخونة: گرمی، بخار السَخِین: جو نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا۔ السَخِینَة (ط): آٹے سے تیار کیا ہوا کھانا، گرم کھانا ماءٌ سِخِّین: گرم پانی ضربٌ سِخِّین: تکلیف دہ مار۔ التَسَاخِین: ہانڈیاں۔ المِسْخَنَة جمع مَسَاخِن: ہانڈی، دیگچی۔

۲۔ السِخِّینُ جمع سَخَاخِین: کدال، بیلچہ، پھاوڑا، قصائی کی چھری، ہل کا دستہ۔ التَسَاخِین: موزے، جوتے، سلیپر، علماء کا سر پر ڈالنے کا کپڑا (اس کا واحد نہیں) کہتے ہیں اس کا واحد تَسْخَنٌ یا تَسْخَان ہے۔

○ سَخُنَ - سَخَنَ - وَسَخِنَ - سُخُونَةً و سَخَانَةً و سُخْنَةً: گرم ہونا، حرارت ہونا، بدن گرم ہونا۔ سَخَّنَ و أسْخَنَ ہ: کو گرم کرنا، تپانا۔ سُخْن: گرم سَخَانَة: گرمی، حرارت، تپش۔ سُخُونة: گرمی،

حرارت، تپش۔ سَخّانُ میاہ: بوئلر، گرم پانی کی ٹینکی Boiler, hot water tank سَخّانَۃ: گرم پانی کی بوتل سخّانۃ الحمامَ: گرم حمام Bath heater سَخّانات: گرم پانی کے چشمے آب تاب Geyser

سَاخِن: گرم۔

سخا: ا۔ سَخَا ۔ُ و سَخِیَ ۔َ و سَخُوَ ۔ُ سَخًا و سَخَاءً و سَخَاوَۃً و سُخُوًّا و سُخُوَّۃً: سخی ہونا، فیاض ہونا، کہتے ہیں۔ سَخیتُ نفسی و بنفسی عن الشیءِ: میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا مگر میرے دل نے اس بارے میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ تَسَخَّی و تَسَاخَی: بناوٹی سخی بننا۔ السَخَاوَۃ: فیاضی، سخاوت، بخشش۔ السَخِیّ جمع اَسْخِیَاء و سُخُوَاء م سَخِیَّۃ جمع سَخَایَا و سَخِیَّات: فیاض، سخی۔ الارض السخواء جمع سَخَاوِی و سخاوٍ: نرم اور وسیع زمین۔ ارضٌ سَخَاوِیَّۃٌ جمع سَخَاوِیّ: کشادہ نرم زمین۔

۲۔ سَخَا ۔ُ سَخْوًا و سَخا ۔َ سَخْوًا و سَخْیًا النارَ: راکھ نکال کر آگ جلانا۔ ـــ القِدرَ: ہانڈی کے نیچے آگ جلانا۔ مَسْخَی النارِ: ہانڈی کے نیچے کشادہ کی ہوئی جگہ تا کہ آگ بسہولت جل سکے۔

۳۔ سَخَا ۔ُ سَخْوًا و سخا ۔ سَخْوًا و سَخْیًا الرجلُ: سکون اختیار کرنا۔

۴۔ السَخَاءَۃُ جمع سَخَاء (ن): ایک قسم کی سبزی۔

○ سَخَا ۔ُ سَخِیَ ۔ سَخَاءً و سَخُوَ ۔ُ سَخَاوَۃً: سخی، فیاض، فراخ دل، روادار، بے تعصب، غیر قدامت پسند، آزاد خیال، حریت پسند ہونا، کریم النفس، بافیض ہونا۔ (علی) کی جانب (ب) کے ساتھ۔ (علی) کو عطا کرنا۔ انعام دینا (ب) کچھ۔ مرحمت کرنا، دینا (ب) کچھ، علی (کو)۔ سَخَاء: فیاضی، سخاوت، رواداری، بے تعصبی، کریم النفسی۔ سَخِی جمع اَسْخِیاء: فیاض، سخی، فراخ دل، کریم النفس، فراخ دلی سے (ب) کچھ دینے والا، دل کھول کر (ب) کچھ صرف کرنے والا، (ب) کا بے اندازہ خرچ کرنے والا یا عطا کرنے والا۔ سخیۃ اموال: کافی، بہت فنڈ یا مالی وسائل۔ سخی النفس عن الشیء: کوئی شے چھوڑنے یا ترک کرنے پر بے حد مسرور یا خوش وخرم۔

سدّ: ا۔ سَدَّ ۔ُ سَدًّا الاناءَ: برتن کو بند کرنا ـــ الثلمۃَ: سوراخ یا رخنہ بھرنا اور درست کرنا ـــ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ اِنْسَدَّ اِنسِدَادًا و اسْتَدَّ اِستِدادًا: بند ہونا۔ السُدّ جمع اَسْدَاد: دو چیزوں کے درمیان روک یا آڑ۔ پہاڑ کہتے ہیں۔ ضربت علیہ الارض بالاسداد: اس پر تمام راستے بند ہو گئے اور تمام طریقے دھندلا گئے۔ ـــ جمع سُدُود: افق پر چھا جانے والا سیاہ بادل۔ جرادٌ سُدٌّ: افق کو ڈھک لینے ڈالا، ٹڈیوں کا دل ـــ جمع۔ سِدَدَۃٌ: پتھروں اور چٹانوں والی وادی جس میں پانی بہت عرصہ ٹھہرے، وادی، سایہ۔ السُدَّۃ جمع سُدَد: گھر کا دروازہ، برآمدہ۔ السَدّ جمع اَسْدَاد: دو چیزوں کے مابین رکاوٹ، پہاڑ۔ ـــ الدُحروج (ا ع): ہیڈ ورکس ـــ جمع اَسِدَّۃ: عیب جیسے اندھاپن۔ السِداد: ڈھکن، وہ چیز جس سے بند کیا جا سکے۔ تھن میں جما ہوا دودھ جو دودھ کی نالی کو بند کر دیتا ہے۔ السِدادۃ: ڈھکن، کارک۔ السُدَاد (طب): ناک کی بیماری جس سے ہوا لینی دشوار ہو۔ عینٌ سادّۃٌ جمع سُدٌّ: کمزور نظر کی آنکھ۔ اَلمَسَدّ: بند کرنے کی جگہ۔ سَدَّ مَسَدَّہُ: کا قائم مقام ہونا۔

۲۔ سَدَّ ۔ِ سَدَدًا و سَدَادًا: درست ہونا۔ ھو یسِدّ فی قولہ: وہ صحیح بات کہتا ہے۔ وقلتُ لہٗ سَدَادًا من القول و سَدَدًا: میں نے اس سے ٹھیک اور سیدھی بات کہی۔ ـــ الشیُ: کا سیدھا ہونا۔ سَدَّدَ الرمحَ: نیزہ کو سیدھا کرنا۔ ـــ ہٗ: کو راہ راست کی طرف ہدایت کرنا۔ اَسَدَّ الشیءُ: کا سیدھا ہونا۔ ـــ الرجلُ: صحیح ہونا یا درستی کا طالب ہونا۔ تَسَدَّدَ: سیدھا ہونا ـــ الشیءُ: کا سیدھا ہونا۔ اِسْتَدَّ الشیءُ: کا سیدھا ہونا۔ کلامٌ سِدٌّ: درست بات۔ السَدَد (مص): درست، راست، استقامت۔ رجلٌ سَدَّاد: سیدھا آدمی۔ السُدَّۃ جمع سُدَد: صحیح، درست، بیٹھنے کی جگہ، منبر، رتبہ، منصب کہتے ہیں۔ جلس فلانٌ فی سُدَّۃِ الوزارۃ: وہ وزارت کے منصب پر فائز ہوا۔ الأَسَدّ جمع سُدٌّ و السَدِید: ٹھیک درست حق کا طالب۔

○ سَدَّ ۔ُ سَدّ ہ: کو بند کرنا، روکنا، کا راستہ روکنا، میں رکاوٹ ڈالنا، کی راہ میں روڑا اٹکانا، (راستہ) بند کرنا، کی ناکہ بندی کرنا، کو ڈاٹ لگانا کاگ لگانا، کی ڈاٹ لگانا۔ ـــ علی: کو روکنا (ہ) سے ـــ ہ: (کچھ، خصوصاً اخراجات قرضہ) ادا کرنا، چکانا، رقم کا کافی ہونا کے لئے)۔ ہ: پورا کرنا، کیلئے کافی ہونا، کی رقم ادا کرنا۔ سد ثُغرۃً: شگاف درز یا خلا، پُر کرنا، رخنہ یا شگاف بند کرنا۔ ـــ ثُلمۃً: رخنہ شگاف پر کرنا۔ سد خَلَّۃً: خامی، کمزوری کا چارہ کرنا، علاج کرنا۔ سدّ حاجتہٗ: کی ضرورت پوری کرنا۔ سد رمقۃُ: کو زندہ رکھنا، مشکل سے روزی کمانا، بھوک مٹانا۔ سدَّ مَسَدَّہُ: کی جگہ پُر کرنا، کی جگہ لینا، کے بدلہ میں دینا۔ سد مطامِعَہُ: کے مطالبے پورے کرنا۔ سدّ فَرَاغًا: رخنہ، شگاف پر کرنا۔ سدَّ النواقِص: نقائص، کوتاہیاں، کمیاں دور کرنا، یا ان کا چارہ کرنا۔ سدَّ ۔ِ سُدُودًا و سَدَادًا: صحیح ہونا، اچھی حالت میں ہونا، صحیح بات کہنا، صحیح کام کرنا، موزوں ہونا، مناسب ہونا، برمحل ہونا، غور طلب بات ہونا۔ سدّد ہ: کو روکنا۔ ہ: ادا کرنا، چکانا۔ سدّدہٗ نحو: کی کی طرف رہنمائی کرنا۔ کو کا سیدھا راستہ دکھانا۔ سدّد ہ الی: کی راہ دکھانا، کا رخ کسی طرف کرنا، کا نشانہ کرنا۔ سدّدَ الی: کا نشانہ باندھنا، کی تمنا کرنا، کی آرزو کرنا۔ دیکھنا، نقطہ ماسکہ پر لانا۔ سدّد دَیْنًا: قرضہ ادا کرنا، چکانا۔ سدّد عَجْزًا: خسارہ، ٹوٹا کمی، گھاٹا پورا کرنا۔ سدّد خُطاہُ: کے قدموں کو سیدھے راستہ پر چلانا۔ اسدّ: صحیح بات کہنا، صحیح کام کرنا، مناسب ہونا۔ تَسَدَّد الی: کی طرف رہنمائی ہونا۔ کی طرف رہبری ہونا، کی طرف راستہ پانا۔ انسدّ: بند ہونا، رک جانا۔ سَدّ و سُدّ جمع سدود و اَسْدَاد: رکاوٹ، روک، ناکہ، جنگلہ کٹہرا، قلعہ کا پشتہ، کنارہ، ٹیلا، بند، ڈیم، دریا کا ڈیم۔ سدّ المناطید: طیارہ روک غبارہ یا طیارہ روک غباروں کی باڑ۔ حارۃ السدّ: بند گلی۔ سُدّہ جمع سُدد: پھاٹک، دروازہ، چوکھٹ، دہلیز، سرین، بستر کوچ، دیوان۔ تحتَ السَدَاد: حل طلب، واجب الاداء، بلا ادائیگی۔ بِسَدادٍ: مناسب طریقہ سے موزوں طور پر۔ سداد الرای: سلیم طبعی۔ سِدَاد جمع اَسِدۃ: پلگ، سٹوپر، کارک۔ سِدَاد التوصیل (برقیات): پلگ۔ سِدَادۃ: پلگ، سٹوپر، کارک، مکھی (Sight) سَدِید: نشانہ پر مناسب موزوں برمحل متعلقہ، سے متعلق، صحیح، درست۔ اسد: زیادہ موزوں، زیادہ متعلقہ۔ تسدید: ادائیگی، دیوالہ نکالنا، دیوالہ۔ تحت التسدید: واجب الاداء، حل طلب، ابھی تک ادا نہ ہوئی رقم۔ ساد: رکاوٹ بننے یا ڈالنے والا۔ مسدود: بند۔

سدج: سَدَجَ ۔ُ سَدْجًا بالشیء: کا گمان کرنا۔ تَسَدَّجَ: جھوٹ بولنا، جھوٹی باتیں بنانا۔ سَدَّاج: جھوٹ بولنے والا، جھوٹی باتیں بنانے والا۔ اِنْسَدَجَ: منہ کے بل گرنا، اوندھا گرنا۔

سدح: ا۔ سَدَحَ ۔َ سَدْحًا ہُ: کو ذبح کر کے زمین پر لٹانا، کو پچھاڑنا۔ ـــ الناقۃَ: اونٹنی کو بٹھانا۔ وسَدَّحَ ہٗ: کو قتل کرنا۔ اِنْسَدَحَ: ٹانگیں کشادہ کر کے چت لیٹنا۔ السَادِحۃ: گھٹا ٹوپ بادل۔ السَدِیح و المَسْدُوح: چت لیٹا ہوا۔

۲۔ سَدَحَ - سَدْحًا القِرْبَةَ: مشک بھرنا۔

۳۔ سَدَحَ - سَدْحًا بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ السَّادِح (فا) م سادِحة: آسودہ حال، مال دار۔

سدخ: اِنْسَدَخَ: پھیلنا۔

سدر: ۱۔ سَدَرَ - سَدْرًا و سُدُورًا الشَّعرَ: بالوں کو لٹکانا۔ — الثوبَ: کپڑا اپھاڑنا، لمبائی میں لٹکانا۔ — الرجلُ فی البلاد: ملک میں ایسا جانا کہ پھر نہ لوٹنا۔ اِنْسَدَرَ الشعرُ: بالوں کا لٹکنا، (کہتے ہیں: اِنْسَدَرَ یرکض وہ کسی قدر تیز دوڑا)۔ برابر ڈھلوان سے نیچے اترنا۔ تَسَدَّرَ بثوبہ: کپڑا اوڑھنا۔ السِدر جمع سُدُور (ن): بیری۔ السِدْرة جمع سِدْرات و سِدِرات و سِدَرات و سِدَر (ن): بیری کا درخت۔ سِدْرَة المنتھی: عرش الٰہی کی داہنی جانب بیری کا درخت۔ السَّدِر: سمندر۔ السِدَار: خیمہ کے عرض میں لگایا جانے والا باریک سا پردہ۔ السَدّار: بیری کے پتے بیچنے والا۔ السَّدِیر: گھاس، حیرہ کے اطراف میں ایک دریا کا نام۔ السِیُدارة: اوڑھنی، گروہ، ممکن ہے فارسی لفظ ستارہ کا معرب ہو۔

۲۔ سَدِرَ - سَدَرًا و سَدَارَةً: حیران ہونا، لاپرواہ ہونا و۔ — البعیرُ: اونٹ کا گرمی کی شدت سے چندھیا جانا۔ سادِر: گرمی کی شدت سے چندھیا جانے والا اونٹ۔ السَّادِر: کہتے ہیں۔ تکلمَ سادِرًا: بے احتیاطی سے گفتگو کرنا۔ السَّدِر: حیران۔

۳۔ ناقَةٌ سَدِرَة: بوڑھی اونٹنی۔ السَّدِیر: یمن میں ایک جگہ کا نام۔ سَدِیر النخل: نخلستان۔ الأسدران (ع ا): آنکھ کی دو رگیں، دونوں شانے کہتے ہیں۔ جاء یضرب اَسْدَرَیہِ: وہ بے نیل ومرام خالی ہاتھ آیا۔

○ سَدِرَ - سَدَرًا و سَدَارَةً: (آنکھ) کا چندھیا جانا، خیرہ ہو جانا، گھبرا جانا، گڑبڑا جانا، پریشان ہونا، حیران ہو جانا، الجھاؤ میں پڑ جانا، حواس باختہ ہونا، چونک جانا، سراسیمہ ہو جانا، بہک جانا، دھوکا کھا جانا۔ بلغَ سِدرة المنتھی: بلندترین مقصد حاصل کر لینا، بنیادی نتائج حاصل کرنا۔ سِدارة جمع سَدائِر: عراق میں مستعمل سیاہ مخمل سر کا لباس، پردیس کی ٹوپی۔ سادِر فی: (میں) غیر محتاط۔

سدس: ۱۔ سَدَسَ - سَدْسًا القومَ: کا چھٹا ہونا کے مال کا چھٹا حصہ لینا۔ سَدَّسَ الشیءَ: کو شش پہلو بنانا۔ اَسْدَسَ القومُ: چھ ہونا، کے اونٹوں کا چھٹے روز گھاٹ پر آنا۔ — البعیرُ: اونٹ کا سامنے کے چار دانتوں اور کچلیوں کے درمیان والے دانت کے بعد دانت گرانا۔ السِّدْس: اونٹوں کی چھٹے روز پانی پینے کی باری۔ (بیت کی اصل سدس ہے) السُّدْس و السُّدُس جمع أسداس: چھٹا حصہ، ایک بٹہ چھ، کہتے ہیں۔ ھو یضرب اخماسا لاسداس: وہ مکروفریب کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ السَّدَس جمع سُدْس و سُدُس: آٹھویں سال کی عمر کا اونٹ۔ السَّادِس (فا) م سادِسَة: چھٹا۔ السُّداسِیّ: چھ سے مرکب یا چھ چیزوں والا، چھ ضلعوں والی چیز۔ چھ حروف پر مشتمل لفظ جیسے زنجبیل۔ سُداس کہتے ہیں۔ جاءُوا سُداسَ: وہ چھ چھ کر کے آئے۔ السَّدِیس جمع سُدس: چھٹا حصہ۔ ایک بٹہ چھ، چھ کا مرکب، یا چھ چیزوں والا۔ آٹھویں سال کا اونٹ، چھ سال کی بکری۔ المُسَدَّس (ھ): چھ ضلعوں والی شکل، چھ گولیوں والا ریوالور۔

۲۔ السُّندُس و السَّدُوس: سبز رنگ کی چادر۔

○ سَدَّسَ ھ: کو چھ گنا کرنا، کو چھ سے ضرب دینا، کو چھ پہلو والا بنانا۔ سُدْس و سُدُس جمع أسداس: چھٹا حصہ ایک بٹہ چھ۔ سُداسِی: چھ گنا، چھ حصوں پر مشتمل۔ السادس: چھٹا۔ مُسَدَّس: چھ ضلعوں والا۔ جمع مُسَدَّسَات: ریوالور، سکس شوٹر Six shooter مُسَدَّس اِشارة: اشارہ کا پستول (Very pistol) مُسَدَّسَة: پستول، گن، ریوالور۔

سدع: سَدَعَ - سَدْعًا ہُ: کو ذبح کر کے پھیلا دینا۔ — الشیءَ بالشیء: ایک چیز کو دوسری چیز سے ٹکرانا، ٹکر لگانا۔ سُدِعَ: رنجیدہ ہونا، اذیت دیا جانا۔ السَّدْعة: مصیبت، رنج، اذیت۔ المِسْدَع: اپنی راہ چلنے والا، رہنما گائڈ۔

سدف: ۱۔ سَدَفَ - سَدْفًا القومُ: تاریکی میں آنا۔ — الحجابَ: پردہ لٹکانا۔ مَسْدوف: لٹکا ہوا پردہ۔ اَسْدَفَ: سونا کی بھوک یا بڑھاپے کی وجہ سے نظر کا دھندلا ہونا۔ — القومُ: تاریکی میں آنا۔ — اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ اَسْدَف: تاریک (رات)۔ م سَدْفاء جمع سُدُف — تِ المرأةُ القِناعَ: عورت کا برقعہ ڈالنا۔ السَّدَف جمع اَسْداف والسُّدْفة: تاریکی، روشنی، (ضد)۔ السُّدْفة: تاریکی، روشنی، دروازہ، دروازہ کا پردہ۔ السِّدافة: پردہ۔

۲۔ سَدَفَ - سَدْفًا القومُ: تاریکی میں آنا۔ اَسْدَفَ القومُ: تاریکی میں آنا۔ — الفجرُ: صبح کا روشن ہونا۔ — السِّتْرَ: پردہ اٹھانا۔ — عن کذا: سے الگ ہونا، کہتے ہیں۔ أَسْدِفِ البابَ: دروازہ کھولو، یا دروازے سے ہٹ جاؤ تا کہ روشنی گھر میں آ سکے۔ السَّدَف جمع سُدُوف: دور سے دکھائی دینے والا وجود۔ السَّدَف جمع أَسْداف: روشنی، تاریکی (ضد) السَّدْفة و السُّدْفة: روشنی، (تاریکی) ضد)

۳۔ سَدَّفَ ہُ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ سَدِیف جمع سِداف و سَدائِف: کوہان کی چربی اس چربی کے ٹکڑے۔ السَّدِیفة جمع سَدائِف: فربہ اونٹنی۔

○ سَدَف جمع أسْداف: تاریکی، جھٹپٹا، شام کا دھندلکا۔ سُدْفَة جمع سُداف: تاریکی، جھٹپٹا، شام کا دھندلکا، پردہ۔

سدق: السَّدَق و السَّوْدَق: سَدَق و سَوْذَق: کی بگڑی ہوئی شکل۔

سدك: سَدِكَ - سَدَكًا و سَدْكًا بالامر: پر جما رہنا، قائم رہنا، ڈٹا رہنا، کے لئے اپنے آپ کو وقف کرنا مخصوص کرنا۔ ایسا شخص سَدِك بہ کہلاتا ہے، کہتے ہیں: ھو سَدِك بالرُّمح: وہ ایک اچھا نیزہ باز ہے۔

سدل: سَدَلَ - سَدْلاً الشعرَ او الثوبَ: بالوں یا کپڑے کو چھوڑنا، لٹکانا۔ تَسَدَّلَ و انْسَدَلَ: لٹکنا۔ — الثوبَ: کپڑا اپھاڑنا۔ — فی البلاد: ملک میں جانا۔ سَدِلَ - سَدَلاً: مائل ہونا۔ سَدَّلَ الشعرَ او الثوبَ: بالوں یا کپڑے کو چھوڑنا یا لٹکانا۔ سَوْدَلَ الرجلُ: لمبی مونچھیں رکھنا۔ السِّدْل جمع اَسْدال: سینہ تک لٹکنے والا ہار —— والسُّدُل جمع أَسدال و سُدُول و أَسْدُل: پردہ کہتے ہیں۔ اَرخی اللیلُ سُدُولَہ: رات نے اپنی تاریکی کے پردے چھوڑ دیئے۔ السَّدَل: میلان، جھکاؤ، رجحان کہتے ہیں۔ فیہ سَدَل الی جانب: وہ ایک طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ السَّدِیل جمع سُدُل و أَسْدال و سَدائِل: پالکی وغیرہ کا پردہ (اع) پردہ سکرین جس پر فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ السَّوْدَل: مونچھیں۔ شعرٌ مُسَدَّل: گھنے لمبے بال۔

○ سَدَلَ - سَدْلاً: کو لٹکنے یا گرنے دینا۔ ھ علی: کو کچھ پر گرانا، نیچے کرنا۔ سُدِلَ: لٹکنا۔ سَدَّلَ و اَسْدَلَ: بمعنی سَدَلَ تَسَدَّلَ: نیچے لٹکنا، نیچے کیا جانا، نیچے ہونا۔ انسدل علی: پر اترنا۔ سِدْل و سُدُل جمع سُدُول و أَسْدال: پردہ (اوڑھنی برقع) پردہ Curtain

سدم: ۱۔ سَدَمَ - سَدْمًا البابَ: دروازہ بند کرنا۔ سَدِمَ - سَدَمًا الماءُ: پانی کا بہت دنوں کا ہونے کے سبب متغیر ہونا اور کائی سے ڈھک جانا۔ سَدَّمَ الماءَ طولُ عھدہ: درازی مدت کا پانی کو متغیر کرنا۔ ماءٌ سَدِمٌ و سُدُمٌ و سَدِیمٌ و سُدُمٌ: کائی سے ڈھکا ہوا پانی، بہت دنوں کا ہونے کی وجہ سے متغیر پانی بصورت جمع کہیں گے۔ میاهٌ سُدُمٌ و اسدام و سِدام۔ السدیم جمع سُدُم: کہر، کہرا، دھند۔ (فلک) نیبولا (Nebula)

۲۔سَدِمَ ۔ سَدَمًا بالشیء : کو بہت چاہنا، اوراس کا حریص ہونا۔ السَّدِیم جمع سِدام: بہت ذکر کرنے والا۔

۳۔سَدِمَ ۔ سَدَمًا: ندامت کے ساتھ غمگین ہونا۔ السَّدَم: ندامت کے ساتھ غم، غم کے ساتھ غصہ۔ رجل سَدِمٌ : غضبناک آدمی۔ السَّدمان: پشیمان، غمگین کہتے ہیں۔ ھو سَدْمَان ندمان: وہ ندامت کے ساتھ غمگین ہے۔

○ انسدم: (چشمہ کا) خشک ہوجانا۔ سَدَمٌ: دکھ، رنج، غم، الم، ملال، اندوہ ایذا، تکلیف، مصیبت، قہر، بپتا، سخت غم۔ سدیم: کہر، دھند، نیبولا (Nebula) (فلکیات)۔ سدیمی: نیبولا کا، سحابی، مبہم، غیر واضح۔

سدن : ا۔ سَدَنَ ۔ِ سَدْنًا و سِدَانَۃً: کعبہ شریف یا بت خانہ کا خادم ہونا، کی خدمت کرنا۔ کا دربان ہونا یا حاجب۔ سادِن جمع سَدَنَہ: کعبہ یا بت خانہ کا خادم، دربان، حاجب۔ سِدانۃ الکعبۃ: کعبہ کی خدمت۔

۲۔سَدَنَ ۔ سُدُنًا و سِدَانَۃَ السِّترِ: پردہ چھوڑنا۔ السِّدْن والسَّدَن: جمع اسْدان والسَّدَن: پردہ السَّدِین: چربی، اون، پردہ۔

۳۔السَّدّان: آہرن، نہائی، صحیح لفظ سَنْدان ہے۔

○ سِدَانۃ: کسی مزار خصوصا کعبہ شریف کے نگران یا ناظم کا عہدہ یا دفتر۔ سَادِن: کعبہ شریف کا نگران یا ناظم یا دربان، محافظ گرجا، محافظ، مہتمم۔ جمع سَدَنَہ: مشین گن، ٹینک وغیرہ کا عملہ۔

سدا : ا۔ سَدَا ۔ سُدُوًّا بیدہ نحو الشیء : کی طرف ہاتھ بڑھانا۔ ۔ ت الناقۃ فی المشی: اونٹنی کا چلنے میں کھلے قدم رکھنا۔ الصبیُّ بالجوز: بچہ کا اخروٹ سے کھیلنا۔ کہتے ہیں۔ سدا سَدْوَہٗ: کی پیروی کرنا۔ أَسْدَی إِسْدَاءً النخلُ: کھجور کا نرم پڑنا۔ اِسْتَدَی اِسْتِدَاءً بیدہ: ہاتھ بڑھانا۔ الصبیُّ بالجوز: بچہ کا اخروٹ سے کھیلنا۔ النوقُ السَّوَادِی: چلنے میں کھلے کھلے قدم رکھنے والی اونٹنیاں۔

۲۔اِسْتَدَی اِسْتِدَاءً الفرسُ: گھوڑے کا پسینہ والا ہونا۔

۳۔السَّادِی م سَادِیَۃ جمع سَوَادٍ: چھٹا۔ السَّادۃ: سادہ، جس پر پھول بوٹے نہ ہوں جیسے قماش سادۃٌ: سادہ کپڑا، جس میں آمیزش نہ ہو، جیسے مَاءٌ سَادہ: (فارسی لفظ) خالص پانی۔

سدی : ا۔ سَدَی ۔ِ سَدْیًا الثوبَ: کپڑے کا تانا تننا۔ سَدَّی تَسْدِیَۃً الثوبَ: کپڑے کا تانا تننا۔ اَسْدَی اِسْدَاءً الثوبَ: کپڑے کا تانا تننا۔ بینھما: کے درمیان صلح کرانا۔ تَسَدَّی تَسَدِّیًا الثوبَ: کپڑے کا تانا تننا۔ السَّدی من الثوب جمع أَسْدِیَۃ: کپڑے کا تانا۔ اس کے مقابلہ میں اللحمۃ ہے۔ عام لوگ اسے مَدَّہ کہتے ہیں شہد۔ السَّدَاۃ جمع أَسْدِیَۃ (ز): پھول میں زعفو۔ من الثوب: کپڑے کا تانا۔ کہتے ہیں۔ ما انت بلحمۃ ولا سَدَاۃٍ: تم نہ تو ضرر رساں ہو نہ نفع بخش۔ الأَسْدِیّ والأُسْدِیّ: وہ کپڑا جس کا تانا کیا گیا ہو۔ المِسْدَاۃ (حی): تانا تننے کا آلہ۔

○ سَدَّی وأَسْدَی ھ الی: کو نفع دینا۔ أَسْدَی ہ: کچھ کرنا، سرانجام دینا۔ اسدی الیہ خدمۃً: کی خدمت کرنا۔ اسدی الیہ الارشادات: کو تجاویز دینا، مشورہ دینا۔ أَسْدَی الشکر لہ: کا شکریہ ادا کرنا۔ أسدی فائدۃ: سودمند ہونا، منفعت بخش ہونا۔ أسدی الیہ (یالہ) النُّصحَ: کو مشورہ دینا۔ أسدی الیہ یدا: پر مہربان کرنا، نوازش کرنا، کرم فرما ہونا۔ سَدًّی جمع أَسْدِیَۃ: (کپڑے کا) تانا۔ مسلسل اور عام خصوصیت یا وصف۔ (کہانی یا بحث وغیرہ) کا سلسلہ یا لڑی۔ سَدَاۃ: تانا، مسلسل اور عام خصوصیت یا وصف، سلسلہ یا لڑی (کہانی یا بحث کی) سُدًی: فضول، بے کار، لاحاصل۔ ذھب سُدًی: فضول، بے کار، لاحاصل ہونا۔

۲۔سَدِیَ ۔ سَدًی ت الارضُ او اللیلۃُ: زمین کا زیادہ نمناک ہونا، رات کا بہت شبنم والی ہونا۔ صفت: سَدِیَۃ۔ سَدَّی الیہ: پر احسان کرنا۔ و۔ الیہ معروفاً: کے ساتھ بھلائی کرنا۔ الارضَ: کو نمناک کرنا۔ أَسْدَی إِسْدَاءً إلیہ: پر احسان کرنا۔ کہتے ہیں: أَتِمَّ ما أسدیت: جس احسان کی تم نے ابتداء کی ہے اس کو پورا بھی کرو۔ ۔۔۔ الارضَ: کو نمناک کرنا۔ السَّدی: تری، شبنم، بھلائی۔

۳۔سَدِیَ ۔ سَدًی البُسْرُ: کھجوروں کا نرم پڑنا۔ صفت سَدٍ: السَّدی والسَّدَاء: سبز کچی کھجور۔

۴۔أَسْدَی إِسْدَاءً الأمرَ: کام کو نظر انداز کرنا، یا اس کے کرنے میں غفلت برتنا۔ ابل سُدًی و سَدًی: (واحد اور جمع کے لئے) اونٹ جس یا جن سے غفلت برتی جائے۔ کہتے ہیں۔ ذھب کلامُہٗ سُدًی: اس کا کلام بے کار گیا۔

۵۔تَسَدَّی تَسَدِّیًا الشیَّ: پر سوار ہونا، چڑھنا، اوپر سے پکڑنا۔

سذب : السَّذَاب (ن): ایک تیز بو والا پودا۔

سذج : سَذَجَ: دیکھئے سدج۔ السَّاذَج: سادہ، بے نقش ونگار، سادہ (فارسی لفظ) کا معرب ۔۔۔ جمع سُذَّج: سادہ، خوش اخلاق، سادہ دل، سادہ لوح۔ اسم السَّذَاجۃ: سادگی، خوش اخلاقی، سادہ لوحی، سادہ دلی۔ عام لوگ کہتے ہیں ساذج اور سذاجۃ

سذق: ا۔ السَّذَق: اہل فارس کی مشہور رات جسے لیلۃ الوقود (ایندھن کی رات) کہتے ہیں۔ السُّوذَق: دل، کنگن، بیڑی کی کڑی یا حلقہ۔ شکرا۔ (فارسی لفظ)

۲۔السُّذانِق والسُّوذَنِیق والسُّوذَانِق (ح): شکرا۔

○ سَر: سربراہ، چیف سردار: سپریم کمانڈر، کمانڈنگ جنرل۔ سَر عسکر: جنرل (عثمانی فوج میں) سَریاوران: ایڈجوٹنٹ جنرل۔

سر : ا۔ سَرَّ ۔ سُرُورًا و مَسَرَّۃً و سُرًّا و سُرّی و تَسِرَّۃً ہٗ: کو خوش کرنا۔ سَرَّ فلانًا: کو پھولوں کا دستہ پیش کر کے مبارک باد دینا۔ سُرَّ سُرُورًا: خوش ہونا۔ مَسْرُور: خوش۔ سَرَّرَہٗ: کو خوش کرنا۔ أَسَرَّ اسرارًا ہٗ: کو خوش کرنا۔ تَسارّ: کہتے ہیں۔ تَسارّ زیدٌ إلی ما تکرہ: زید اس بات سے لطف اندوز ہوا جو تمہیں ناپسند ہے۔ اِسْتَسَرَّ اِسْتِسْرَارًا الرجلُ: خوش ہونا۔ السَّرّ (مص) رجل بَرٌّ سَرٌّ: نیکی کر کے خوش ہونے والا آدمی۔ اسی طرح کہتے ہیں۔ قومٌ بَرُّونَ و سَرُّونَ: السَّرَّۃ: گلدستہ۔ السُّرّ: سرور، خوشی۔ اِمْرَأۃ سُرَّۃٌ: لوگوں کو خوش کرنے والی عورت۔ السُّرُور: خوشی، ناز بو کی شاخیں۔ السَّرِیر جمع أَسِرَّۃ و سُرُر: تخت، زیادہ تر استعمال تخت شاہی کے لئے ہے (کہتے ہیں۔ زال عن سریرہ: اسکی عزت اور نعمت جاتی رہی) خوابگاہ، گردن اور سر ملنے کی جگہ، نعمت، زندگی کی آسودگی۔ السِّرِّیر: وہ شخص جو اپنے بھائیوں کو خوش کرتا ہو اور ان کے ساتھ نیک سلوکی سے پیش آتا ہو۔ السَّرَّاء: خوشی، خوش حالی۔ (ضرّاء کا الٹ) کہتے ہیں ھو صدیقٌ لھم فی السراء والضراء: وہ فراخی اور تنگی میں ان کا دوست ہے۔ سَرَارۃُ العیش: بہتر اور افضل زندگی۔ کہتے ہیں: ھو فی سرارۃٍ من عیشہ: وہ خوب فراخی اور خوشحالی میں ہے۔ السارُوراء: خوشی و خوشحالی۔ المَسَرَّۃ (مص): جمع مَسَارّ: خوشی و مسرت۔ ناز بو کی شاخیں۔ المسرور م مسرورۃ: خوش و فرحان۔

۲۔سَرَّ ۔ سَرًّا ہٗ: کی ناف میں نیزہ مارنا۔ الصبیَّ: بچہ کی نال کاٹنا۔ سُرَّ سَرًّا: کی ناف میں درد ہونا۔ سُرَّ سُرُورًا الصبیُّ: پیدائش پر بچہ کی نال کا کاٹا جانا۔ السُّرّ جمع أَسِرَّۃ: بچہ کی نال۔ السِّرّ: درمیان، وادی کا درمیان ۔۔۔ جمع أَسِرَّۃ (قِنّ واقِنّۃ کی طرح)، ہر چیز کا جوف اور مغز۔ السُّرَد: چیز کا کھوکھلا ہونا ۔۔۔ السُّرُر: بچہ کی نال جو پیدائش کے بعد کاٹی جاتی ہے۔ السُّرَّۃ جمع سُرّات و سُرَر: پیٹ کے بچے کی

غذاء کا دروازہ۔ یعنی ناف۔ (ع) نـاف۔ سُـرَّةُ الوادی: وادی کا درمیان۔ و۔ سُرَّة البلد: شہر کا درمیان السِّرَّاء: کھوکھلی نالی۔ السرارة جمع سَرار: وادی کا درمیان یا عمدہ حصہ۔ الأَسَرّ: بیچ سے پولا، چقماق۔

۳۔ سَرَّرَهُ سُرِّيَّةً: کی شادی لونڈی سے کرنا۔ سرّاہ بھی کہتے ہیں۔ سارَّهُ: سے راز کی بات کرنا، کے کان میں کہنا۔ سے کانا پھوسی کرنا۔ أَسَرَّ اِسرارًا هُ: کو راز سے منسوب کرنا۔ السِّرّ: راز چھپانا، راز افشا کرنا (ضد) ۔ الیه بکذا: سے خفیہ بات کرنا، کو بھید بتانا۔ و۔ الیه المودّة و بالمودّة: تک اپنی دوستی کو پہنچانا۔ تَسَرَّرَ: لونڈی بنانا۔ تَسَرّی: بھی کہتے ہیں جیسے تَظَنَّنَ کو تَظَنّی کہتے ہیں۔ تَسارَّ القومُ: لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا، کان پھوسی کرنا، ایک دوسرے کو بھید بتانا۔ اِستَسَرَّ اِستِسرارًا: لونڈی بنانا۔ ۔ عنه: سے چھپنا۔ ۔ القمرُ: چاند کا ایک دو راتیں چھپنا۔ ۔ الشیءَ: کے چھپانے میں مبالغہ کرنا۔ ۔ الرجلَ: کو اپنے بھید سے واقف کرنا۔ السِّرّ: جمع اسرار: راز، بھید (کہتے ہیں۔ صُدور الاحرار قبور الأسرار: احرار کے سینے بھیدوں کی قبریں ہیں)۔ قمری مہینہ کی پہلی، آخری یا درمیانی رات (کہتے ہیں۔ فلانٌ سِرُّ هذا الامر: فلاں شخص اس معاملہ کے راز سے آگاہ ہے) خالص چیز، چیز کا پاکیزہ ترین و بہترین حصہ، پاکیزہ عمدہ زمین، اصل، عیسائیوں کے ہاں ایک محسوس علامت یا اشارہ ہے جسے حضرت عیسیٰؑ نے تقدیس نفوس کے لئے متعین فرمایا۔ السِّرّيّ: راز کی، راز دارانہ۔ رجلٌ سِرّيّ: خفیہ طور پر چیزیں بنانے والا۔ السَّرَر: قمری مہینہ کی آخری رات۔ السَّرار: خالص نسب۔ سَرارُ الوادی: وادی کے بہترین مقامات۔ ۔ الشهرِ: مہینہ کی آخری رات۔ السِّرار: مہینہ کی آخرت رات۔ السَّرارة: خلوص کہتے ہیں۔ هو بِسِرٍّ بيِّنٍ: وہ خالص واضح خلوص والا راز ہے۔ و۔ جمع۔ خالص و افضل النسب۔ سرارة الشیء: چیز کا پاکیزہ ترین اور خالص حصہ۔ سُرَّة الوادی: وادی کی بہترین جگہیں۔ السُّرِّيَّة جمع سَراری: لونڈی جو گھر میں رہتی ہے۔ اغلب گمان ہے یہ سِرّ کے لفظ سے مشتق ہے۔ السَّريرة جمع سَرائر: بھید، راز۔ وہ معاملہ جس کو انسان چھپاتا ہے۔ نیت کہتے ہیں۔ هو طيّبُ السريرة: وہ پاک دل اور کھری نیت کا آدمی ہے۔ السَّرّاء: کشادہ نالہ جس میں ریت اور کنکریاں ہوں۔ أرضٌ سَرّاء: عمدہ زمین۔ المسرّة: بات کرنے کی نلکی Speaking ٹیلی فون Telephone، tube۔

۴۔ تَسَرَّرَ الثوبُ: کپڑا پھٹنا۔ السِّرّ جمع اَسرار و جمع الجمع اسارير: ہاتھ یا ماتھے کی لکیر۔ السِّرّ جمع أسرار و جمع الجمع أسارير: (ہاتھ یا ماتھے کی لکیر جیسے اوپر) راستہ، طریقہ۔ السَّرَر و السُّرور: ہاتھ اور ماتھے کی لکیریں۔ السِّرار جمع أسِرَّة: ہاتھ اور ماتھے کی لکیریں۔ (عموماً) لکیریں۔ الأسارير: چہرے کی سج دھج، بناوٹ۔

۵۔ سُرَّةُ الحوض: حوض کا پیندا جہاں پانی ٹھہرتا ہے۔ ۔ الفرس (فلك): ایک ستارہ۔ السرير جمع أسِرَّة و سُرُر: ٹیلہ پر کی ریت۔ الأسَرُّ من الرجال: اجنبی آدمی۔ بہت موٹا۔

○ سَرَّ ۔ سُرورًا و تَسِرَّةً و مَسَرَّةً هُ: کو خوش کرنا، باغ باغ کرنا، مسرور، شاد یا محظوظ کرنا، کی دل داری کرنا، کا دل بہلانا۔ سُرَّ سُرورًا: خوش ہونا، باغ باغ ہونا، مسرور ہونا، شاد ہونا، محظوظ ہونا۔ ۔ لِ/ من/ ب: (سے، پر) خوش ہونا وغیرہ سَرَّرَهُ: بمعنی سَرَّهُ۔ سارَّهُ: کو راز کی بات کہنا یا بتانا یا راز دار بنانا۔ سارّه فی اذنه: کے ساتھ کانا پھوسی کرنا، سے سرگوشیوں میں کہنا۔ اَسَرَّهُ: بمعنی سَرَّهُ: أسَرَّ هُ: کو راز میں رکھنا، چھپانا، مخفی رکھنا۔ اَسَرَّ هُ/ ب إلی: کو کچھ بتانا (راز کے طور پر)، کو کا راز دار بنانا، کو سرگوشی کے انداز میں کچھ بتانا، کو کچھ کان میں کہنا، کو کی کانا پھوسی کرنا۔ اَسَرَّ فی اذنه: کے کان میں کچھ سرگوشی کرنا۔ تَسَرّی و تَسَرَّرَ ها/ ب: کو داشتہ بنانا۔ اِستَسَرَّ: چھپانے کی کوشش کرنا۔ ۔ عن: سے چھپانا، چھپنا۔ ۔ ها: کو داشتہ بنانا، گھر میں ڈال لینا۔ سِرّ جمع اسرار: راز، بھید، پوشیدہ خیال، دل، اخفا، پردہ داری، راز داری، نامعلوم شئے، سربستہ راز، کسی بات کی تہہ میں موجود وجہ یا سبب۔ سِرًّا: پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر، علیحدگی میں، الگ۔ سِرًّا و علانیةً: پوشیدہ طور پر، کھلم کھلا، علی الاعلان۔ سرُّ الليل: پہرے کا لفظ Pass word، شناختی لفظ watch word۔ کـاتبُ السِّرّ: سیکرٹری کا تِمُ السر: سیکرٹری۔ کلمةُ السِّرّ: واچ ورڈ، پاس ورڈ (شناختی لفظ) فی سِرِّه: پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر، دلی طور، دل میں۔ اتعب سِـرَّهُ: کو تکلیف دینا، زحمت دینا، پریشان کرنا، کی ناک میں دم کرنا، کو دق کرنا، ستانا، زچ کرنا۔ سِرّی: خفیہ، پوشیدہ، در پردہ، مخفی، غیر سرکاری۔ سرير جمع أسِرَّة و سُرُر و سَرائر: پلنگ، چارپائی، کھاٹ، کھٹیا، تخت، عرش، بلند مقام۔ سَريرة جمع سَرائر: راز، بھید، پوشیدہ خیال، دل دماغ، ذہن، روح۔ صَفاءُ السريرة: ضمیر کی صفائی۔ طَيِّبُ السريرة: بھولا بھالا، بے ریا، سادہ دل۔ سَرّاء: خوشی، سرور، فروغ۔ فی السَّرّاء و الضَّرّاء: اچھے برے دنوں میں۔ تَسَرٍّ: داشتہ بنانا۔ استسرار: داشتہ بنانا۔ سارٌّ: خوش کن، تسکین دہ، طمانیت بخش، خوش و خرم، راحت بخش، مسرت بخش۔ مَسـرورٌ ب: پرخوش، سے خوش۔ مُسِرٌّ: خوشگوار، تسکین دہ، طمانیت بخش، راحت بخش، مسرت بخش۔ مُستَسَرّ: چھپنے کی جگہ۔

○ سرادق جمع سرادقات: بڑا خیمہ، چتر، چتر شاہی، سائبان، شہ نشین، سراپردہ، تماشائی خانہ۔

○ سراط بمعنی صراط

○ سَرای: محل۔ سَرایة جمع سرایات: محل۔ السراية الصفراء: پاگل خانہ۔

سرأ: سَرَأَ ۔ سَرْأً ۔ و سَرَّأَ تَسْرِئَةً ت الجرادةُ او السمكةُ او الضبةُ: ٹڈی، مچھلی یا گوہ کا انڈہ دینا۔ ۔ تِ المرأةُ: عورت کا بہت اولاد والی ہونا۔ أسْرَأَت السمكةُ: مچھلی کا انڈا دینے کے وقت کو پہنچنا یا اس کے انڈے دینے کا وقت آجانا۔ السَّرْءُ و السِّرْءُ و السَّرْأَة و السِّرْأَة: ٹڈی، مچھلی، گوہ وغیرہ کا انڈہ۔ السَّرُوء جمع سُرُء و سُرَّاء من السمك ونحوها: بہت انڈے دینے والی مچھلی وغیرہ۔ ارضٌ مسروءةٌ: بہت ٹڈیوں والی زمین۔

سوب: ا۔ سَرَبَ ۔ سُرُوبًا الماءُ: پانی کا جاری ہونا، بہنا۔ ۔ سَرَبًا القربةُ: مشک سینا۔ سَرِبَ ۔ سَرَبًا الاِناءُ: پانی کا برتن سے بہہ جانا۔ ۔ الماءُ من الاناء: پانی کا برتن سے بہہ جانا۔ سُرِبَ: ناک میں چاندی کا دھواں داخل ہونے سے گھٹن محسوس کرنا۔ مَسْرُوب: وہ جو ناک میں چاندی کا دھواں داخل ہونے سے گھٹن محسوس کرے۔ سَرَّبَ القربةَ: مشک میں پانی ڈالنا۔ و اَسْرَبَ الماءَ من الإناء: برتن سے پانی بہا دینا۔ تَسَرَّبَ من الماء: پانی سے بھر جانا۔ اِنْسَرَبَ الماءُ من الاناء: پانی کا برتن سے بہہ جانا۔ السَّرَب جمع اَسْراب: پانی کی نالی، مشک سے بہنے والا پانی۔ السَّرِب: بہتا پانی۔ مزادةٌ سَرِبَةٌ: بہنے والی مشک۔ السَّراب: دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں پانی کی طرح نظر آنے والی ریگستانی ریت، جس میں گھروں درختوں وغیرہ کا عکس دکھائی دیتا ہے، جھوٹ اور فریب کے لئے یہ ضرب المثل ہے: هو أخدَعُ من السراب: وہ سراب سے زیادہ فریبی اور دھوکے

بازہے۔ السَربَۃ: گھونگھا، منکہ، کوڑی، نگینہ۔ مَسرب الماء: پانی بہنے کا راستہ۔ المَسرَبَۃ و المَسرُبَۃ جمع مَسارِب (ع ا) آنسو بہنے کی جگہ، دُبر۔ المُنسَرِب: تیز بہنے والا پانی، لمبا۔

۲۔ سَرَبَ ۔سُروبًا الرجلُ: گھستے چلے جانا۔ ۔ تِ الإِبلُ: اونٹوں کا چرنے کے لئے جانا۔ سَرَّبَ الإبلَ: اونٹوں کو ٹولی ٹولی کر کے بھیجنا۔ ۔ اليَّ الاشياءَ: اس نے مجھ کو چیزیں ایک ایک کر کے دیں۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ سَرَبَ الرجلُ: آدمی اپنے گھر واپس آ گیا۔ السَرْبُ: مویشی، رخ، راستہ۔ کہتے ہیں۔ خَلِّ لَهُ سَرْبَهٗ: اس کا راستہ چھوڑ اور کہتے ہیں۔ فلانٌ مُخلَّی السَرْب: فلاں پر کوئی تنگی نہیں۔ السِربُ جمع أَسراب: ہرنوں کا ریوڑ، پرندوں کی ٹولی، کھجور کے درختوں کا جھنڈ، راستہ۔ السَرَب: کہتے ہیں: طریقٌ سَرَبٌ: بہت چلتا ہوا راستہ، بہت آمد و رفت والا راستہ۔ السُربَۃ جمع سُرَب: ہرنوں گھوڑوں وغیرہ کا ریوڑ، انگور کی بیلوں کی قطار۔ کھجور کے درختوں کا جھنڈ، راستہ۔ سینہ سے پیٹ تک بال۔ السَرَبَۃ: قریب کا سفر۔ السارب (فا) صاف ظاہر۔ ۔ و السَرُوب: سیدھا جانے والا۔ ظبیۃٌ ساربۃ: اپنی چراگاہ میں جانے والی ہرنی۔ المَسرَب جمع مَسارِب: راستہ، کہتے ہیں۔ وللوحش والنعم مساربُ و مسارح: جنگلی جانوروں اور مویشیوں کے اپنے اپنے جانے کے راستے اور چرنے کی جگہیں ہیں۔ المَسرَبَۃ و المَسرُبَۃ جمع مَسارِب: چراگاہ، سینہ کے وسط سے پیٹ تک کے بال۔

۳۔ سَرَبَ الحافِرُ: زمین کو دائیں بائیں سے کھودنا۔ تَسَرَّبَ الوحش في جحره: وحشی جانور کا اپنے سوراخ میں گھس جانا۔ ۔ في البلاد: ملک میں چھپ کر داخل ہو جانا۔ جیسے آپ کہتے ہیں: تسربت الجواسيسُ: جاسوس خفیہ طور پر سرحد پار کر گئے۔ اِنسَرَبَ: سوراخ میں داخل ہونا۔ السَرْبُ: سینہ۔ السِربُ جمع اَسراب: دل۔ کہتے ہیں: فلانٌ واسعُ السِربِ: فلاں فراخ دل ہے (یا خوش حال ہے)۔ السَرَب جمع اَسراب: وحشی جانور کا سوراخ یا بل۔ زمین کے نیچے کا گڑھا۔ المُنسَرِبَۃ: فنی اسالیب میں چوری چھپے داخل ہو جانے والا طریقہ یا فارمولا۔

۴۔ سَرْبَخَ الرجلُ: چست و چالاک ہونا، آرام سے چلنا، دوپہر کو چلنا۔ السَرْبَخ: دور تک پھیلا ہوا بیابان جو آدمی کو بھٹکا دے۔ قفرٌ سِرماخ و مُسَربَخ: دور تک پھیلا ہوا بیابان جو راہ چلنے والے کو بھٹکا دے یا گم کر دے۔

۵۔ سَرْبَلَ ہٗ: کو قمیص پہنانا۔ تَسَرْبَلَ بالسربال: قمیص پہننا، عام لوگ کہتے ہیں: تَسَرْبَلَ الرجلُ: آدمی اپنے معاملہ میں گھبرا گیا اور اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے، کی سٹی گم ہو گئی۔ السِربال جمع سَرابیل: قمیص یا ہر وہ چیز جو لباس کے طور پر پہنی جائے۔

○ سَرِبَ ۔سَرَبًا: بہنا، رسنا، لیک کرنا۔ سَرَّبَ ہ / ہ إلى: لوگوں یا چیزوں کو ٹولیوں یا جتھوں میں، یا دستہ دستہ، کی طرف بھیجنا۔ تَسَرَّبَ: بہنا، رسنا، بچ نکلنا، باہر نکل آنا، بچ نکلنا، کھسک جانا، سرک جانا، چلتے چلتے جانا۔ ۔ و إلى: کے آر پار ہو جانا، میں سرایت کرنا، میں نکل جانا، میں رینگ جانا، میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں چلتے ہوئے پہنچ جانا، میں کھسک جانا، میں چپکے سے چلے جانا، میں چپ چاپ گھس جانا، میں رس کر پہنچ جانا (رپورٹ وغیرہ) کا لیک آؤٹ ہو کر کے پاس پہنچ جانا۔ ۔: کے ساتھ ساتھ رینگنا، کے ساتھ ساتھ بہنا، پھسلنا، ۔ (خبر کا) پھیل جانا، گردش کرنا، مشہور ہونا۔ اِنسَرَبَ (جانور کا) اپنے بھٹ میں چھپ جانا۔ یا آہستہ آہستہ چل کر اپنے بھٹ میں چلے جانا۔ سِرب جمع أسراب: گلہ، ریوڑ، جھنڈ، جھرمٹ، جھول، ہجوم، بھیڑ (سواروں، جنگی جہازوں کا) دستہ، (فوجی طیاروں کا) پرہ۔ گروپ، ونگ۔ فارمیشن۔ فلائٹ (طیاروں کی) دل، ذہن، نفس، شعور۔ سِرب مِن النحل: شہد کی مکھیوں کا جھنڈ یا فوج۔ هادئ السرب: پرسکون، پرسکوت، چپ چاپ ساکن۔ سَرَب جمع اسراب: بھٹ، بل، سوراخ، ماند، زیر زمین راستہ، سرنگ، بڑی نالی۔ سُربَۃ جمع سُرَب: بمعنی سِرب۔ سُراب: سَراب، بھوت، وہم و ہم کی پیداوار، وہمی صورت، گندے نالے کا پانی، بدرو کا پانی (Sewage)۔ مَسرَب جمع مَسارِب: راستہ، راہ، طریق، دریائی گزرگاہ، نالی، بدرو۔ سارب: واضح، بین، جاذب توجہ، جاذب نظر، مرئی، جو دیکھا جا سکے۔ سارِبَۃ جمع سوارب: رینگنے والا جانور۔ Reptile۔ سربل ہ: کو سربال پہنانا۔ ہ ب: کو سے ملبوس کرنا۔ ہ ب: کو سے ڈھکنا، کو میں لپیٹنا۔ تَسَربَل: سربال پہننا۔ ہ: پہننا (کوئی لباس)۔ (ب) میں ملبوس ہونا (مجازاً کنایۃً بھی)۔ سِربال جمع سَرابیل: قمیص، لباس، زرہ بکتر، Coat of mail ۔ بالشباب

سرت: السِرتيفيكا: دیکھئے الشهادة الابتدائية:

سرج: ۱۔ سَرَجَ ۔سَرجًا: جھوٹ بولنا۔ سَرِجَ ۔ سَرَجًا: جھوٹ بولنا۔ سَرَّجَ الحديثَ: بات گھڑ لینا۔ کہتے ہیں۔ سَرَّجَ عليَّ أُسرُوجَۃً و انه ليُسَرِّجُ الاحاديث تسريجًا: اس نے میرے خلاف ایک جھوٹ گھڑ لیا۔ وہ جھوٹی باتیں گھڑتا ہے۔ تَسَرَّجَ عليه: کے متعلق جھوٹا گمان کرنا۔ السَرّاج: جھوٹا۔ الأُسرُوجۃ: جھوٹ۔

۲۔ سَرِجَ ۔ سَرجاتِ المرأةُ شعرَها: عورت کا اپنے بالوں کو گوندھنا یا بالوں کی چوٹی بنانا۔ سَرِجَ ۔سَرَجًا: حسین چہرے والا ہونا۔ سَرَّجَ الشيءَ: چیز کو خوبصورت بنانا۔ کہتے ہیں۔ سَرَّجَ اللّٰهُ امرَكَ: اللہ تمہارا معاملہ بہتر کرے۔ ۔ ہُ اللّٰهُ: اللہ تعالیٰ کا کو توفیق دینا۔ ۔ الشعرَ: بال گوندھنا، بالوں کی چوٹی بنانا۔ عوام کہتے ہیں۔ سَرَّجَ الثوبَ: اس نے سلائی کے دور دور ٹانکے لگائے صحیح لفظ شَرَّجَ ہے۔

۳۔ أَسرَجَ الفرسَ: گھوڑے پر زین کسنا۔ السَرج جمع سُرُوج: زین۔ مال سرجُك: معاملہ بگڑنے اور رائے کی کمزوری کے بارے میں ضرب المثل ہے۔ السَرّاج: زین بنانے والا، زین ساز۔ السِراجۃ: زین بنانے کا پیشہ۔

۴۔ أَسرَجَ السِراجَ: چراغ روشن کرنا۔ السِراج جمع سُرُج: چراغ۔ سراجُ الليل: جگنو۔ السِرِج: تلوں کا تیل۔ اسے الشيرج بھی کہا جاتا ہے۔ المَسرَجَۃ جمع مَسارِج: چراغ دان۔ المِسرَجۃ جمع مَسارج: چراغ۔ السُرَيجيّات: سُرَيج نامی ماہر تلوار ساز سے منسوب تلواریں۔

۵۔ السِرجِن و السِرجِين و السِرجُون: گوبر (فارسی لفظ)

○ سَرَجَ ہ: بال گوندھنا، بالوں کی چوٹی بنانا۔ ہ کا کچا بخیہ کرنا، کے لمبے لمبے ٹانکیں لگانا، ٹنگندے لگانا، کو نسلک کرنا۔ ہ (جانور) پر زین ڈالنا۔ سَرج جمع سُرُوج: زین، کاٹھی۔ سِراج جمع سُرُج: لیمپ، روشنی۔ سراج الحَرَكَة: ٹریفک لائٹ۔ سراج الليل: جگنو۔ کرمکِ شب تاب۔ سَرّاج و سُرُوجي: زین ساز۔ سروجية: زین سازی، زین سازی کا پیشہ۔ أُسرُوجَۃ: جھوٹ، دروغ، کذب۔ مِسرَجَۃ و مَسرَجَۃ جمع مَسارِج: لیمپ، دیا، چراغ، بتی، لیمپ سٹینڈ، چراغ دان۔

سرح: ۱۔ سَرَحَ ۔سَرحًا و سُرُوحًا ت المواشي: مویشی کا چرنے کے لئے جانا۔ سرح السيلُ

مویشی کو چرنے کے لئے بھیجنا۔ ـــ ۂ: کو بھیجنا۔ ـــ ما فی صدرہ: دل کی بات بتانا۔ سَرِحَ ۔سَرَحًا الرجلُ: اپنے معاملات کے لئے نکلنا۔ سَرَّحَ المواشیَ: مویشی کو چرنے کے لئے بھیجنا۔ ـــ القومَ: کو بھیجنا یا آزاد کر دینا۔ الزَّوجۃ: بیوی کو طلاق دینا۔ اسم: سَراحَ ـــ الیہ رسولاً: کے پاس پیغامبر بھیجنا۔ ـــ اللّٰہُ فلاناً للخیر: اللہ تعالیٰ کا کو بھلائی اور نیکی کی توفیق دینا۔ ـــ الشَّعرَ: بالوں میں کنگھی کرنا۔ الامرَ: کام کو آسان کرنا۔ عنہُ: کو کھول دینا۔ اِنْسَرَحت الدابۃُ: جانور کا نرم اور تیز چلنا۔ الرجلُ: آدمی کا ٹانگیں کھول کر چت لیٹنا، کپڑے سے نکل کر ننگا ہونا۔ تسرَّحَ من المکان: کسی جگہ سے نکلنا۔ ـــ عنہُ: کا کھولا جانا۔ ـــ الکتّانُ: کتان کے اجزاء کا جدا جدا ہونا۔ السَّرح (مص) جمع سُرُوح: واحد سَرْحَۃ: مویشی، گھر کا صحن، ہر لمبا درخت یا ہر وہ درخت جس میں کانٹے نہ ہوں۔ خیلٌ سُرُحٌ و ناقۃٌ سُرُحٌ: تیز و نرم رفتار گھوڑا یا اونٹنی۔ مشیۃٌ سُرُحٌ: نرم رفتار۔ عطاءٌ سُرُح: بلا ٹال مٹول فوری بخشش۔ السَّارِح (فا) م سَارِحَۃ: اونٹ چرانے والا چرواہا۔ مویشی کہتے ہیں۔ مالہ سارحۃٌ و لا رائحۃ: اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ السَّراحَ: تسریح کا اسم کہتے ہیں۔ اَفْعَلُہُ فی سَراحٍ و رَواحٍ: میں اسے بسہولت کر لیتا ہوں۔ السَّرِیح من الامور: سہل، آسان، جلدی کیا ہوا، جلدی (کام)۔ من الخیل: ننگی پیٹھ کا گھوڑا۔ السریحۃ ج سَرائِح: تسمہ جس سے جوتا وغیرہ سیا جائے، کپڑے کا ٹکڑا، تنگ راستہ۔ المِسْرَح جمع مَسارِح و المِسرَحۃ: کنگھا، جس سے بالوں میں کنگھی کی جائے، یا کتان وغیرہ میں کنگھی کی جائے۔ المَسْرَح ج مَسارِح: چراگاہ، تھیٹر، سٹیج۔ مَسْرَحِیَّۃ: سٹیج پلے، تمثیل، ڈرامہ۔ المُنْسَرِح: شعر کی بحروں میں سے ایک بحر جس کا مستعمل وزن مستفعلن فاعلاتُ مُفتعِلن ہے۔ السِّرْیاح من الخیل: تیز رفتار گھوڑا۔ رجلٌ سِرْیاح: دراز قد آدمی۔

۲۔ اَلسُّرحۃ (ح): جوان گدھی جو ابھی گیابھن نہ ہوئی ہو۔ السِّرحان جمع سِراح و سَراحٍ و سَراحِین (ح): بھیڑیا، شیر، حوض کا درمیان۔ ذَنَبُ السرحان: صبح کاذب۔ السرحانۃ (ح): سرحان کا مونث۔

۳۔ اَلسُّرحُوب: جمع سَراحِیب (ح): گھوڑا، متناسب الاعضاء لمبا آدمی۔

۴۔ اِسْرِحال (ح): بھیڑیا۔

○ سَرَحَ ۔سُرُوحًا: جانا، چھوڑنا، ترک کرنا، آزادی سے گشت کرنا، جو پانے کا آزادی سے چرنا، ذہن کا سراسیمہ ہونا۔

سَرِحَ: آزادی، مرضی سے، بغیر پابندی جانا۔ سَرِحَ مَرِحَ: من مانی کرنا۔ سَرَّحَ ہ: مویشی کو چراگاہ میں چرنے کے لئے بھیجنا۔ ـــ ہ: کو بھیجنا، کو جانے دینا۔ ـــ ھا: (بیوی) کو طلاق دیکر چھوڑ دینا۔ ـــ ۂ: کو چھٹی دینا، کو برخاست کرنا، کو عہدہ سے علیحدہ کرنا، سبکدوش کرنا، آزاد کرنا، رہا کرنا۔ ـــ ہ: (آنکھیں) جھٹکنے دینا۔ ـــ ہ: (فوج) کو سبکدوش کرنا، خدمت سے سبکدوش کرنا، منتشر کرنا۔ ـــ عن: کی پریشانیاں دور کرنا۔ ـــ غمومہ: کی پریشانیاں دور کرنا۔ ـــ ہ: (بالوں) میں کنگھا کرنا۔ ـــ شعرہ: بالوں میں کنگھا کرنا، بال بنانا۔ ـــ نظرہٗ الی: کی طرف دیکھنا۔ اِنْسَرَحَ یُفکِّرُ: گہرے خیال میں گم ہونا، خیالات میں کھویا ہوا، گم، محو، مستغرق، غافل ہونا، پراگندہ دماغ ہونا۔ سَراح: عورت کو طلاق کے بعد آزاد کرنا۔ اَطْلَقَ سَراحَہُ: کو رہا کرنا، آزاد کرنا۔ اِطْلاقُ سَراحِہ: کی رہائی، آزادی۔ مُطْلَقُ السراح: آزاد، قید سے رہا۔ سَرِیح اور بائع سَرِیح: پھیری والا، ہاکر (Pedler, hawker)۔ مَسْرَح جمع مَسارِح: چراگاہ، سٹیج تھیٹر سین۔ مَسْرَحُ التمثیل: تھیٹر۔ مَسْرَحِي: ڈرامائی، تھیٹریکل ڈرامے یا تھیٹر کا، سٹیج کا۔ مَسْرَحِیہ جمع مسرحیات: سٹیج پلے، ڈرامہ، تمثیل۔ تَسْرِیح: برخاستگی، سبکدوشی، خدمات سے سبکدوشی، جمع تَسارِیح: اجازت، اختیار۔ تَسْرِیحَۃ جمع تسریحات: بال بنانا (Hair-do)۔ سارحُ الفکر: سراسیمہ، بٹے ہوئے خیال والا، خیالات میں کھویا ہوا، گم، محو، مستغرق، غافل، پراگندہ دماغ۔ مُنْسَرِحُ الفکر: ایضاً۔

○ سارُوخ جمع سَوارِیخ: راکٹ (Rocket)

سرد: ۱۔ سَرَدَ ۔سَرْدًا و سِرادًا الدرعَ: زرہ بننا۔ الجلدَ: چمڑا سینا۔ ـــ الشیئَ: میں سوراخ کرنا، کو چھیدنا۔ سَرَّدَ و اَسْرَدَ الادیمَ ونحوہٗ: چمڑا سینا۔ تَسَرَّدَ الدرُّ: موتیوں کا ترتیب سے پرویا جانا کہتے ہیں۔ تسرَّدَ دمعُہٗ کماتسرَّدَ اللؤلؤ: موتیوں کی طرح آنسوؤں کی لڑی بندھ گئی۔ السَّرْد (مص): زرہ، زرہ کی کڑیاں۔ نجومٌ سَرْدٌ: ساتھ ساتھ ایک قطار کے ستارے۔ السَّرَّاد: زرہ ساز۔ السِّراد و السَّرِید: ستال، سراخ یا چھید کرنے کا آلہ، پیچ۔ المِسْرَد: بمعنی السِّراد: زبان، دہری سلائی کا جوتا، چھلنی (چوڑے سراخوں والی) (عام زبان میں)۔ المَسْرُود و المُسَرَّد و المَسْرُودۃ: زرہ۔

۲۔ سَرَدَ ۔سَرْدًا و سِرادًا الحدیثَ او القراءۃ: اچھی طرح بیان کرنا یا پڑھنا، اچھی طرح رواں کرنا۔ ـــ الصومَ: لگاتار روزے رکھنا۔ ـــ الکتابَ: کتاب کو تیزی سے پڑھنا۔ وسَرِدَ ۔سَرَدًا: مسلسل روزے رکھنا۔ السَّرْد (مص): لگاتار ہونا۔

۳۔ سَرِدَ و اَسْرَدَ النخلُ: درخت خرما کا پانی نہ ملنے سے مرجھا جانا۔ السَّراد: پانی نہ دیئے جانے سے پھل کی پژمردگی۔

۴۔ السِّرداب جمع سَرادِیب: تہ خانہ، سرنگ (ع) ایئر ریڈ شیلٹر، ہوائی حملوں سے بچاؤ کی پناہ گاہ۔ (قبوالوقایۃ من الغارات الجویۃ)

○ سَرَدَ ۔سَرْدًا ہ: (کچھ) کو چھیدنا، چیرنا، میں چھید ڈالنا۔ ہ: کو جاری رکھنا (مثلاً گفتگو جاری رکھنا)۔ ـــ ہ: (حقائق واقعات) کو ایک ایک کر کے گننا، شمار کرنا، کا ایک ایک کر کے نام لینا۔ ہ: کو پیش کرنا، سے اقتباس پیش کرنا یا کا حوالہ دینا، کی تفصیل بیان کرنا، کو مفصل بیان کرنا یا پوری طرح سے بیان کرنا، کی تفصیلات دینا، کو معقول طور پر پیش کرنا۔ سرَّدَ ہ: کو چھیدنا، میں چھید کرنا، سراخ کرنا، کو چیرنا۔ سرد: گنتی، شمار، نام پڑھنا، یا لینا، ذکر کرنا، حوالہ دینا، معقول اور مفصل پیش کش، سرگذشت، کہانی وغیرہ کی تفصیل پیشکش، کا ترجمہ، مدلل، منطقی۔ مَسْرَد: (کسی کتاب کا) اشاریہ سَرِیدَۃ المولد: نبی کریمؐ کی ولادت کا یوم منانے کے دوران کیا جانے والا خطبہ یا پیش کیا جانے والا مقالہ جو میلاد النبیؐ سے متعلق ہو۔ سِرداب: تہ خانہ، زیر زمین چیزیں سٹور کرنے کا کمرہ، بیسمنٹ، بیسمنٹ فلیٹ۔ سِردار: سپریم کمانڈر۔ کمانڈنگ جنرل (پہلے زمانہ میں مصر میں)۔

۵۔ سَرْدَجَ ۂ: کو نظر انداز کرنا۔

۶۔ السرداح جمع سَرادِح و سَرادِیح: (واحد سرداحۃ): کیلے کے درختوں کا جھنڈ۔ ارضٌ سِرْداح: ہموار زمین، دور کی زمین۔ و السِّرداحۃ جمع سَرادِح و سَرادِیح (ح): لمبی مضبوط اونٹنی۔

۷۔ سَرْدَقَ البیتَ: میں پردہ لگانا، شامیانہ لگانا، خیمہ لگانا۔ السُّرادِق جمع سُرادقات: شامیانہ، خیمہ، اوپر چھایا ہوا غبار یا دھواں۔

۸۔ السَّرْدِین (ح): سارڈین (چھوٹی مچھلیاں) واحد سردینۃ

سرس: ۱۔ سَرِسَ ۔سَرَسًا: بد خلق ہونا، بے عقلی کے بعد عقل مند ہونا، جہالت کے بعد دانا ہونا۔

السَّرِیس: دانا، مقبوضہ چیز کی حفاظت کرنے والا۔

۲۔ سَرْسَرَ الشفرۃَ: دھار تیز کرنا۔ السُّرسُور: گریبان، خالص ساتھی (کہتے ہیں۔ ھو سُرسُورُ مالٍ: وہ مال کا بہت اچھا منتظم ہے اور اس کے مصالح سے خوب واقف ہے۔) زیرک، سمجھدار۔

۳۔ البِرْسَام: دماغ کی ایک بیماری (فارسی لفظ)

سرط: ۱۔ سَرَطَ ـُـ و سَرِطَ ـَـ سَرْطًا و سَرَطَانًا و تَسَرَّطَ و اِسْتَرَطَ الشیءَ: کو نگلنا۔ اِنْسَرَطَ الشرابُ فی حلقہ: حلق میں آسانی سے اتر جانا۔

السِّراط: صاف کھلا راستہ۔ ستراتا کا معرب ہے، جو لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی فرش بندھی یا ٹائل لگی سڑک ہے۔ السُّرَاط من السیوف: تیز کاٹنے والی تلوار، کاٹ دار تلوار۔ السُّرَاطِیّ: کاٹ دار تلوار، شمشیر بران، جلد نگل جانے والا، بہت کھانے والا۔

السُّرُط: تیز چلنے والا۔ والسِّرْوَاط والسُّرَطَۃ والسَّرَّاط والسِّرْطِیط: جلد نگل جانے والا، بہت کھانے والا۔ السُّرَیْطَی: سَرَط کا اسم، نگلنا

السَّرَطَان: تیز رو۔ فرسٌ سَرَطَانٌ یا سرطانُ الجری: تیز رو گھوڑا۔ المَسْرَط: خوراک نگلنے کی نالی۔ المِسْرَط: خوراک نگلنے کی نالی، تیزی سے کھانے والا۔

۲۔ السَّرَطان: (ح) کیکڑا۔ برج سرطان (فلکیات) پھوڑا جس میں رگیں کیکڑے کی ٹانگوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ اسے انگریزی میں کینسر کہتے ہیں۔

۳۔ سَرْطَعَ: ڈر کی وجہ سے سرپٹ دوڑنا۔

۴۔ السَّرْطَلُ: لمبا اور بے ڈول۔

۵۔ السَّرْطَم: لمبا اور بے ڈول۔ والسِّرْطَم: پیٹو، بہت کھاؤ۔

○ سَرِطَ ـ سَرْطًا و سَرَطَانًا و سَرَطَ ـُـ: کو نگلنا، ہڑپ کر جانا۔ تَسَرَّطَ و اِسْتَرَطَ ہ: کو نگلنا و ہڑپ کر جانا۔ سَرَطان جمع سَرَطانات: جھینگا مچھلی، کینسر (طب) برج (فلکیات)۔ سرطان بحری: جھینگا مچھلی۔

سرع: ۱۔ سَرِعَ ـَـ و سَرُعَ ـُـ سُرْعَۃً و سِرْعًا و سَرْعًا و سِرَعًا و سَرَعًا و سَرَاعَۃً: جلدی کرنا۔ سارَعَ الیہ: کی طرف جلد جانا، کی طرف جلدی کرنا۔ و۔ فی الأمر: کی کوشش کرنا۔ أَسْرَعَ فی المشی: جلدی چلنا۔ تَسَرَّعَ الأمرُ: جلدی ہونا۔ تَسَرَّعَ الی الأمر: کی طرف سبقت کرنا، تیزی کرنا۔ تَسَرَّعَ بالامر: کی سبقت کرنا۔ تَسَارَعَ الی الامر: کی طرف سبقت کرنا، تیزی کرنا۔ السَّرِع: تیز، جلد باز۔ سَرْعَانَ و سِرْعَانَ و سُرْعَانَ: فتح پر مبنی اسم فعل بمعنی اَسْرِعْ: جلد کر۔ سرعانَ القومُ: اے لوگو! جلد کرو، کبھی تعجب کے لئے آتا ہے۔ جیسے: لسرعانَ مافعلت: تم نے کیسی جلدی کی۔ چنانچہ لفظ میں خبری اور معنی میں انشائی ہوتا ہے۔ السَّرْعان م سَرْعی: جلد باز۔ سَرَعانُ و سَرْعانُ القوم اوالخیل: سب سے آگے کے لوگ یا گھوڑے۔ جاء فی سَرَعان الناس: وہ پہلے آنے والوں میں آیا۔ السَّرِیع جمع سُرْعان م سَرِیعۃ جمع سِرَاع: جلدی کرنے والا۔ شعر کی بحروں میں سے ایک بحر جس کا وزن مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ ہے۔ المِسْرَع والمِسْرَاع جمع مَسَارِع و مَسَارِیع: خیر یا شر کی طرف جلدی کرنے والا۔

۲۔ السَّرْع جمع سُرُوع: انگور کی شاخ یا ہر تازہ شاخ۔ الأَسَارِیع: کمان کی لکیریں۔ کہتے ہیں۔ قوسٌ ذات أَسَارِیع: لکیروں والی کمان۔ واحد أُسْرُوع و یُسْرُوع (ح): سرخ جسم سیاہ سر والا کیڑا، گھن۔

۳۔ السُّرْعُوفَۃ (ح): سبز رنگ کا عجیب شکل کا کیڑا جو دوسرے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتا ہے۔

○ سُرُع و سِرْع جمع أَسْرَاع: باگ، لگام۔ سُرْعَۃ الخاطر: حاضر دماغی۔ سُرعۃ التصدیق: خوش اعتقادی۔ سُرْعانَ ما: کتنی جلدی جلد، جلد ہی، ابھی، تھوڑی دیر میں، بہت جلد، فوراً آناً فاناً۔ السریع: ایکسپریس ٹرین۔ سَرِیعًا: تیز، تیز تیز، تیزی سے، جلدی سے، بسرعت، جلد، فوراً، بلاتاخیر۔ سریع التاثر: آسانی سے متاثر ہونے والا، اثر پذیر، فوراً محسوس کرنے والا، حساس۔ سریع التردد: (برقیات) ہائی فریکوئنسی سریع الزوال: عارضی، چندروزہ، ناپائیدار، آنی جانی، گریزپا، برق پا۔ سریع الخاطر: تیز فہم سریع التصدیق: خوش اعتقاد، ضعیف الاعتقاد، بھولا، سریع الطلق (الطلقات): تیز فائر کرنے والا، تیز فائر۔ سریع العَطَب: جلد ٹوٹ جانے والا، نازک، کمزور۔ سریع التَنَقُّل: آسانی سے منتقل ہو سکنے یا کیا جا سکنے والا، جو آسانی سے قابو میں آ سکے۔

أَسْرَع: زیادہ تیز۔ ما اَسْرَعَ لِمَن رَایتہ: میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا۔ سِرَاعًا: جلد، تیزی، جلدی میں۔ اِسراع: تیز چلانا، لے جانا یا کرنا۔ مُتَسَرِّع: بڑا تیز، سخت عجلت کا، بڑا جلد باز۔

سرغ: ۱۔ سَرِغَ ـَـ سَرْغًا: انگور کے گچھے ڈنڈیوں کے ساتھ کھا جانا۔ السَّرْغ جمع سُرُوغ: انگور کی شاخ۔

۲۔ السَّرْغَاسُو (ن): نباتات کی ایک قسم جو پانی پر تیرتی رہتی ہے گرم سمندروں میں رہتی ہے۔ السُّرْغُوس (ح): مچھلی کی ایک قسم۔

سرف: ۱۔ سَرَفَ ـِـ سَرْفًا ـ ـتِ السُّرْفَۃُ الشجرۃَ: کیڑے کا درخت کے پتے کھانا۔ ـتِ الأمُّ وَلَدَھا: ماں کا بچے کو زیادہ دودھ پلا کر بیمار کر دینا۔ سَرِفَ ـَـ سَرَفًا الطعامُ: کھانے کو گھن لگنا۔ السُّرْفَۃ (ح): سرخ جسم سیاہ سر والا کیڑا، گھن۔ اصنعُ من سُرْفَۃ: سرفۃ سے زیادہ ماہر۔ او الأُسروع (ح): لاروا (Larva) السَّرَاف: سرفہ کیڑے کا درخت کے پتوں کو کھا جانا۔ أَرضٌ سَرِفَۃٌ: زمین جہاں سرفہ کیڑے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ السَّرِیف: انگور کی بیلوں کی قطار۔

۲۔ سَرِفَ ـَـ سَرَفًا الأمرَ: کو بھلانا، نہ جاننا، کی قلت یا کمی ہونا، کا پاس نہ ہونا کہتے ہیں۔ ما فی عطاء ھم مَنٌّ والا سَرَفٌ: وہ عطا کی جگہ میں غلطی نہیں کرتے کہ غیر مستحق کو دیدیں اور مستحق کو محروم رکھیں۔ اَسْرَفَ فی کـذا: میں غلطی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، جاہل ہونا، غافل ہونا۔ مُسْرِف: غلطی کرنے والا، بے حد تجاوز کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ جاہل، غافل۔ السَّرَف: خطا، اعتدال کی حد کو چھوڑنا۔ رجلٌ سَرِف الفؤاد: غافل۔ سَرِفُ العقل: کم عقل یا فاسد العقل۔

۳۔ سَرِفَ ـَـ سَرَفًا القومَ: سے تجاوز کرنا۔ ـ الرجلُ بالخمر: شراب کا عادی اور بہت دلدادہ ہونا۔ أَسْرَفَ المالَ: کو فضول خرچ کرنا۔ ـ فی کذا: میں حد سے تجاوز کرنا اور زیادتی کرنا۔ السَّرَف: حد اور اعتدال سے تجاوز۔ کہتے ہیں: أَكَلَہُ سَرَفًا: اس نے جلدی میں کھایا۔ السَّرُوف: بہت بڑا۔

○ مُسْرِف: حد درجہ، بے حد، بے اعتدال، حد سے زیادہ، فزوں از حد، فضول خرچ ضائع کرنے والا۔

سرق: ۱۔ سَرَقَ ـِـ سَرَقًا و سَرِقًا و سَرَقَۃً و سَرِقَۃً و سَرْقًا منہ الشیءَ و سَرَقَہُ الشیءَ: کو سے چرانا، کی چوری کرنا کہتے ہیں۔ سرقوا اللیلۃ من الشھر: جبکہ اس رات کو بڑی عیش و عشرت میں گزارا ہو۔ سَرَقَتْنِی عینی: میری آنکھ مجھ پر غالب آ گئی۔ سُرِقَ الرجلُ: کے گھر میں چوری ہونا۔ ـ صوتُہُ: آواز کا بیٹھنا۔ ایسا شخص مسروق الصوت کہلاتا ہے۔ سَرِقَ ـَـ سَرَقًا الشیءُ: کا پوشیدہ ہونا۔ ـ ت مفاصلُہُ: کمزور جوڑوں والا ہونا۔ سَرَّقَہُ: کی طرف چوری کی نسبت کرنا۔ الشیءَ: چیز چرانا۔ سَارَقَہُ النظرَ: ایک دوسرے کی طرف دردیدہ نگاہ سے دیکھنا۔ ـ النظر

اليه: کسی کو دیکھنے کے لئے موقع چرانا، کی طرف دیکھنے کے لئے اس کی غفلت کا منتظر ہونا۔ تَسَرَّقَ: تھوڑا تھوڑا چرانا، ایک ایک کر کے چرانا۔ ــــ النظرَ او السمعَ: چوری سے دیکھنا یا سننا۔ اِنْسَرَقَ عنهُ: سے پیچھے ہٹنا۔ -- تْ مفاصلُهُ: کمزور جوڑوں والا ہونا۔ اِسْتَرَقَ منه الشيَ: سے چیز چرانا۔ ــــ السمعَ: چوری چھپے سننا۔ ــــ الكاتبُ بعضَ المحسبات: کلرک کا بعض حساب ظاہر نہ کرنا۔ السَّرِقَةُ (مص): چرائی ہوئی چیز۔ السَّارِقُ جمع سَرَقَة و سُرَّاق و سارقون م سَارِقَة جمع سَوَارِق (فا): چور، چوری کرنے والا۔ السَّوَارِقُ: ہتھکڑیاں، بیڑیاں کہتے ہیں: عَضَّت به السوارقُ: یعنی ہتھکڑیوں نے اسے کاٹا۔ السَّرَّاقُ: سارق کا مبالغہ کا صیغہ۔ مہا چور، بہت بڑا چور۔ السَّرُوقُ جمع سُرُقٌ: بمعنی سارق۔ السُّرَاقَةُ: چرائی ہوئی چیز۔ المُسْتَرِقُ (فا): کمزور، ناقص۔ مُسْتَرِقُ العُنُقِ: کوتاہ گردن۔

۲۔ السَّرَقَةُ: جمع سَرَقٌ: ریشمی کپڑے کا ٹکڑا (فارسی لفظ)

۳۔ السُّرْقُعُ: ترش نبیذ۔

۴۔ السَّرْقِينُ و السِّرْقِينُ: گوبر، کھاد۔

○ سَارِقَ النومَ: ہلکی نیند لینا۔ اِسْتَرَقَ السمعَ: چھپ کر سن گن لینا، کن سوئیاں لینا (ریڈیو، ٹیلی فون) پر سرکاری سامع کا کام کرنا، سامعی کرنا، کو مانیٹر کرنا۔ اُسْتُرِقَ الانفاسَ: سانس پھول جانا، ہانپنا، کی سانس پھولنا۔ مسرُوقات: مسروقہ اشیاء مُسْتَرَقُ القوة: کمزور، ضعیف، مضمحل، ناتواں، سخت تھکا ہوا۔

سرك: سَرِكَ - سَرَكاً: کمزور جسم والا ہو جانا، قوت کے بعد بدن کا کمزور پڑ جانا۔ سَرُوكَ و تَسَرُّوكَ: کمزوری یا تھکاوٹ کی وجہ سے بے ڈھنگا یا آہستہ چلنا۔

○ سِرْك: سرکس، (فرانسیسی) (Cirque)

سَرْكِي: (ترکی Sergi) ہنڈی جو حامل کو قابل ادا ہو۔ (Bill of exchange)

سرم: سَرَمَهُ فَتَسَرَّمَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ السُّرْمُ جمع أَسْرَام (ع ا): مستقیم آنت اور مقعد کا کنارہ یا حصہ۔ عوام اسکی ادائیگی صاد سے کرتے ہیں۔ السَّرَمُ: دبر کا درد۔ السُّرْمان و السِّرْمانُ (ح): زرد یا سیاہ بھڑ۔

۲۔ السَّرْمُوجة: ایک قسم کا جوتا۔ عوام کے نزدیک سرمایہ جو اسے س سے ادا کرتے ہیں (فارسی لفظ)

۳۔ السَّرْمَدُ: دائم، ہمیشہ۔ ليلٌ سرمَدٌ: لمبی رات۔ السَّرْمَدِيُّ: جس کا نہ اول ہو نہ آخر۔

○ سَرْمَد: نہ ختم ہونے والا عرصہ، دوام، ابد، ابدیت۔ سَرْمَدِی: ازلی ابدی دائمی، امٹ۔

۴۔ تَسَرْمَطَ الشعرُ: بالوں کا ہلکا اور کم ہونا۔ السَّرْمَطُ و السُّرَامِطُ و المُسَرْمَطُ و السَّرْمَطِيطُ: ہر لمبی چیز۔ السَّرَوْمَطُ بمعنی سَرْمَط، چادر یا پوشش۔ رجل سَرَومط: ہر چیز نگل جانے والا۔

۵۔ السَّرْمَقُ (ن): ایک سبزی۔

سرہ: ۱۔ سَرْهَدَ السنامَ: کوہان کاٹنا۔ ــ الصبيَّ: بچہ کو اچھی طرح خوراک دینا۔ السَّرْهَدُ: کوہان کی چربی۔ ماءٌ سَرْهَدٌ: بہت پانی۔ المُسَرْهَدُ (مفع): فربہ، موٹا۔

۲۔ سَرْهَفَ الغذاءَ: غذا کو عمدہ بنانا۔ الصبيَّ: بچہ کو اچھی طرح خوراک دینا۔

○ سَرَنْدِيب: سیلون Ceylon

سرو: جمع۔ واحد سروۃ: سدابہار سرو۔

سرا: سَرَا و سَرُوَ - وسَرِيَ - سَرْوًا و سَرَاوَةً و سَرًا و سَرًى و سَرَاءً: مروت و سخاوت والا ہونا۔ سُرِيَ القومُ: قوم کے سردار کا مارا جانا۔ سَارَى مُسَارَاةً: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ تَسَرَّى تَسَرِّيًا: بناوٹی مروت و سخاوت دکھانا، لونڈی بنانا۔ اِسْتَرَى اِسْتِرَاءً: اختیار کرنا۔ ــــ الموتُ القومَ: قوم کے سرداروں میں موت واقع ہونا۔ السَّرْوُ (مص): فضل، مروت میں سخاوت۔ السَّرَاةُ جمع سَرَوَات: پیٹھ، دن کی چڑھائی۔ من الطريق: راستہ کا بلند اور بڑا حصہ۔ سَرَوَاتُ القومِ: قوم کے سردار یا سربراہ۔ السَّرِيُّ جمع سُرًى و سُرَاة و سَرَاة و أَسْرِياء و سُرَواء م۔ سَرِيَّة جمع سَرِيَّات و سَرَايا: شرف میں مروت والا یا مروت میں سخی۔ شریف سخی، سردار، اچھی چیز۔

۲۔ سَرَا - سُرُوًّا تِ الجرادةُ: ٹڈی کا انڈے دینا۔ السِّرْوَةُ (ح): ٹڈی جب کیڑا ہو۔

۳۔ سَرَا - سُرُوًّا و سَرَّى تَسْرِيَةً و أَسْرَى إِسْرَاءً الثوبَ عنه: کے کپڑے اتارنا۔ سُرِّيَ و انْسَرَى انسراءً عنهُ الهمُّ: سے غم کا جاتا رہنا۔

۴۔ السَّرْوُ: سرو کا درخت واحد (مو): موسیقی کے صندوق کی آواز دار سطح میں سوراخ جو گول نہ ہو۔ السَّرْوَةُ والسِّرْوَةُ و السُّرْوَةُ جمع سِرًى و سُرًى: چھوٹا تیر، بعض کے نزدیک چوڑے پھل کا تیر۔ السَّرْوِيَةُ: صنوبر، سرو، وغیرہ قسم کے درختوں کا قبیلہ۔

۵۔ سَرْوَلَهُ: کو پاجامہ پہنانا۔ تَسَرْوَلَ: پاجامہ پہننا۔ السِّرْوَالُ و السِّرْوَالَةُ و السِّرْوِيلُ جمع سَرَاوِيل و سراويلات: پاجامہ، مونث ہے کبھی مذکر بھی استعمال کیا جاتا ہے (فارسی لفظ)۔ فرسٌ مُسَرْوَلٌ: بازوؤں اور رانوں سے آگے بڑھی ہوئی سفیدی والا گھوڑا۔ حمامة مُسَرْوَلة: فاختہ، کبوتر جس کی ٹانگوں میں پر ہوں اور لگتا ہو جیسے پاجامہ ہے۔

○ سَرَّى عنه / عن قلبه: کو پریشانیوں سے چھٹکارا دلانا، کی پریشانیاں رفع کرنا، زائل کرنا۔ سَرَّى همومَهُ: بھی معنی۔ سُرِّيَ عنه / عن نفسه: (غم، ملال خوف وغیرہ کا) کسی کا پیچھا چھوڑنا، دوبارہ دلجمعی، اطمینان، سکون حاصل کر لینا۔ انسرى عنه: بمعنی سُرِّيَ عنه۔ سَرِيٌّ جمع سُرَوَاءُ أَسْرِياء و سَرَاة: بلند رتبہ، بلند، عالی دماغ، شریف، ممتاز شخصیت، مشہور جمع سراة: ممتاز افراد، زعماء، سرکردہ طبقہ، بالائی سطح۔ سَرَاة جمع سَرَوَات: پہاڑی، پیٹھ، چیف، سربراہ۔ سَرَوَاتُ القوم: قوم کے رہنما۔ تَسْرِيَة جمع تسريات: تفریح، کھیل۔

سرى: سَرَى - سُرًى و سَرْيَةً و سُرْيَةً و سِرَايَةً و سَرَيَانًا و مَسْرًى و اسْتَرَى: رات میں چلنا۔ سارٍ جمع سُرَاة: رات میں / کو چلنے والا۔ و۔ به: کو رات کو سفر کرانا۔ سَرَّى قائدُ الجيش: کمانڈر کا دستہ فوج بھیجنا۔ سَارَى صاحبَهُ: کے ساتھ ساتھ رات میں چلنا۔ أَسْرَى إسْرَاءً: رات میں چلنا۔ هُ و أَسْرَى به: کو رات کے وقت چلانا۔ السُّرَى و السَّرَيَان و السُّرْيَة: (مصادر) رات کو چلنا، کہتے ہیں۔ عند الصباح يحمدُ القومُ السُّرَى: مراد مشقت برداشت کرنے سے ہی راحت کی جا سکتی ہے۔ اِبْنُ السُّرَى: رات کا مسافر۔ السَّرَّاءُ: رات کو بہت چلنے والا۔ السارى (فا) جمع سُرَاة و المُسَارِي و المُسْتَرِي (ح): شیر۔ السارية: مونث (السلوى کا):۔ و۔ جمع سَوَارٍ: رات کو چلنے والی جماعت، رات کو آنے والا بادل۔ السَّرِيَّة جمع سَرَايا: فوج کا دستہ۔

۲۔ سَرِيَ - سُرًى و سَرْيَةً و سُرْيَةً و سِرَايَةً و سَرَيَانًا و مَسْرًى الهمُّ: غم کا جاتا رہنا۔ سُرِيَ عنه: سے غم یا غصہ کا زائل ہونا۔ سَرَّى عنه او عن قلبه: کا غم و فکر دور کرنا۔

۳۔ سَرَى - سُرًى و سَرْيَةً و سُرْيَةً و سِرَايَةً و سَرَيَانًا و مَسْرًى عِرقُ الشجرة: درخت کی جڑیں زمین کے اندر پھیلتی چلی گئیں۔ ــــ الدمُ في العروقِ: خون کا رگوں میں برابر دوڑنا۔ کہتے ہیں۔ سَرَى الجرحُ إلى النفسِ: زخم کا اثر انداز ہو کر

جان لیوا ہونا۔ (وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا (اردو محاورہ) الامراضُ السارِیَۃُ (طب) : متعدی بیماریاں۔ السَّرِی جمع أَسْرِیَۃ و سُرْیَان : چھوٹی نہر۔

۴۔ أَسْرَی الرجُلُ : کا کشادہ، اونچی زمین کی طرف جانا۔ تَسَرَّی و اِنْسَرَی : دیکھو (سرو) المَسْرَاۃ : ہر شئے کا بلند حصہ۔ سَرَاۃُ الجبل : پہاڑ کی چوٹی۔ الضحی : چاشت کا شروع۔ السَّارِیَۃ جمع سَوَارٍ : ستون۔ — عند الملاحین : ملاحوں کی اصلاح میں مستول۔ السَّرِی : دیکھو (سرو) المَسْرَی او اللاحِب (ف) : رات کو روانہ ہونے کی جگہ۔

۵۔ السِّرِیَۃ (ح) : ٹڈی کا بچہ۔ السَّرَایَۃ والسَّرَایا جمع سَرَایات : قصر شاہی۔ حکومت کے محکموں کی جگہ (فارسی لفظ) السِّرِیَّہ جمع سَرَایا : تیر کا چھوٹا گول پھل۔

۶۔ السریالیۃ : ۱۹۲۴ میں جنم لینے والا، مکتب فکر جس کا رجحان منطق سے متعلق ہر دلچسپی کو نظر انداز کرنا تھا۔

○ سَرَی یَسْرِی سُرًی و سَرَیَانًا و مَسْرًی : رات کے وقت سفر کرنا، رات کو روانہ ہونا، گردش کرنا، برقی رو کا بہنا۔ — من : سے نکلنا، باہر جانا۔ — : پھیلنا، قانونی ہونا، کا قانونی طور پر جواز ہونا، موثر ہونا، نافذ ہونا (علی) کے لئے۔ — علی : پر اثر انداز ہونا، پر لاگو ہونا۔ — فی : میں سرایت کرنا، کے اندر دور تک چلے جانا (جذبہ، احساس کا)۔ الی نفسہ : کی روح میں رچ بس جانا، سرایت کرنا۔ سَرَی سُرَاہ : اپنا رات کا راستہ طے کرنا۔ سری مفعولُہ : کا قانونی، موثر، نافذ ہونا۔ أَسْرَی : رات کو سفر کرنا۔ اسری بہ : کو رات کے وقت سفر کرانا۔ سَرِی جمع اسریۃ و سُرِیان : ندی، کھاڑی، نالہ۔ آبجو۔ سَرِیۃ : (فوجی) فوج کا وہ حصہ جو علیحدہ کر کے کسی مہم پر بھیجا جائے، فوجی دستہ، چھاپہ مار پارٹی، کمپنی (عسکری) سریہ خَیَّالۃ : گھڑ سواروں کا رسالہ Cavalary Squadron سَرِیۃ الطائرات : ہوائی جہازوں کا پرہ۔ سَرَیان : پھیلاؤ، انتشار، قانونی جواز، موثر ہونا، نافذ العمل ہونا۔ مَسْرَی محمد : یروشلم، جہاں سے نبی کریم ساتویں آسمان کو جاتے ہوئے رات کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ اِسْرَاء : رات کا سفر۔ الاسراء : نبی کریم کا آدھی رات کے وقت ساتویں آسمان کی جانب سفر۔ سَارٍ جمع سُرَاۃ : رات کو سفر کرنے والا، رات کے وقت رنگ رلیاں منانے والا۔ رات کا باز، شاہین، شکرا، چھوت کی یا متعدی (بیماری)، نافذ العمل، موثر، قانونی ساری المفعول، موثر، قانونی۔ سَارِیَۃ : مزاج کی کیفیت یا فضا جو ایک کمرہ میں عام ہو یا پھیل گئی ہو۔ جیسے ساریۃ من الجھمۃ : چھائی ہوئی اداسی۔ سُرِیان (اسم جمع) شامی، شام کے باشندے، مشرقی شام کے گرجا کے ارکان۔ سُریانی : شامی، مشرقی شام کے گرجا کا ایک رکن۔ سریاوران : زمانہ گزشتہ میں ایڈجوٹنٹ جنرل۔

سسب : السَّاسَب، السَّیْسَب والسیسب (ن) : ایک درخت جس کی لکڑی سے تیر بناتے ہیں۔ السَّیْسَبَان (ن) : ایک درخت کا نام جس کے بیج سے مثانہ کی پتھری ریزہ ریزہ کرنے کا علاج کیا جاتا ہے۔

سط : الأسَطّ : لمبی ٹانگوں والا آدمی۔ السُّلُطُّ : ظالم لوگ۔

سطب : المِسْطَبۃ والمَسْطَبَۃ جمع مَسَاطِب : (مص کے ساتھ زیادہ بلیغ ہے)، چبوترہ، اہرن، کہکشاں (فلکیات) سائلوں اور غریبوں کے جمع ہونے کی جگہ، سرائے، ایک دیوار کے ساتھ تنگ بنچ۔

سطح : سَطَحَ ـ سَطْحًا ہُ : کو بچھانا، پچھاڑنا، لٹانا۔ — البیتَ : گھر کی چھت ہموار کرنا۔ — الناقۃ : اونٹنی کو بٹھانا۔ سَطَّحَ البیتَ : گھر کی چھت ہموار کرنا۔ — ناقۃَ : اونٹنی کو بٹھانا۔ تَسَطَّحَ : ہموار ہونا۔ اِنْسَطَحَ : چت لیٹنا اور نہ ہلنا، پھیلنا۔ السَّطْح (مص) : جمع سُطُوح : مکان کی چھت، ہر بلند اور اوپر سے چوڑی چیز۔ — عند الحکماء : فلاسفہ کی اصطلاح میں وہ چیز جس کے تمام حصے برابر ہوں، کچھ اونچے اور کچھ نیچے نہ ہوں۔ اسے بسیط بھی کہتے ہیں۔ سطح الجلد (طب) : کھال کا ظاہری حصہ۔ السَّطِیح : پھیلا ہوا، کمزوری یا بیماری کے سبب سستی سے اٹھنے والا۔ — و السَّطِیحَۃ : مشک۔ السُّطَّاح : واحد سُطَّاحَۃ : زمین پر پھیلی ہوئی گھاس یا بیل۔ المِسْطَح : برابر کرنے کا اوزار، بیلن، خیمے کا ستون، کھلیان، خرمن۔ — و المِسْطَاح : کھجور کی شاخوں کی چٹائی، کھجوروں، انجیر اور انگور سکھانے، خشک کرنے کی جگہ۔ کہتے ہیں: رأیتُ الارضَ مساطِحَ : میں نے دیکھا زمین میں کوئی چراگاہ نہیں۔ ایسی زمین کو ہموار چھتوں والے مکانات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ المُسَطَّح (ہ) : ہموار، برابر، چپٹی جمع مسطحات : سطح۔ قدم مسطح : چپٹا پاؤں۔ انف مُسَطَّحٌ : بالکل چپٹی ناک۔

○ سَطَحَ ـ سَطْحًا (ہ) : کو پھیلانا، کھولنا، ہموار کرنا، برابر کرنا، چوڑا کرنا، یکساں کرنا۔ — ہُ : کو زمین پر گرانا، پچھاڑنا۔ سَطَّحَ : بمعنی سَطَحَ ھ

تَسَطَّحَ : پھیلنا، کھلنا، ہموار ہونا، برابر ہونا، پیٹھ کے بل لیٹنا۔ اِنْسَطَحَ : پھیلنا، کھلنا، چت لیٹنا، کاہل ہونا، سست ہونا۔

سطح : (سپاٹ) چھت، چبوترہ، روش، عرشہ جہاز (Deck) سطحُ البحر : سطح سمندر۔ سَطْحٌ مائِل : ڈھلواں میدان (Inclined Plane) سطحی : خارجی، بیرونی، چپٹی، سطحی، اوپری۔ سطحیات : سطحی یا اوپری باتیں۔

سطر : ۱۔ سَطَرَ ـ سَطْرًا ہُ : کو لکھنا۔ سَطَّرَ : افسانے لکھنا، قصے تصنیف کرنا۔ — القرطاسَ : سطریں برابر کرنے کے لئے کاغذ پر لکیریں کھینچنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: سَطَّرَ العبارۃ : عبارت لکھنا۔ سطَّر القاریَ : قاری کا ایک سطر پڑھ کر بعد کی سطر کی طرف منتقل ہونا۔ — علیہ : سے بے اصل اور زٹلیات سے مشابہ باتیں بیان کرنا۔ أَسْطَرَ : پڑھنے میں غلطی کرنا۔ اِسْتَطَرَ : لکھنا۔ السَّطْر : لکیر، لکھائی۔ — و السَّطَر جمع أَسْطُر و سُطُور و أسطار و جمع الجمع اساطیر : قطار۔ السُّطُر : بناوٹ اور جھوٹ سے آراستہ باتیں۔ السُّطْرۃ : آرزو، امید، خواہش۔ الاسطار، والأسطار : (نیزہ کے ساتھ) جمع أساطیر : لکھی ہوئی چیز۔ الأُسْطُور والأُسْطِیر جمع اساطیر : لکھی ہوئی چیز۔ الأُسْطُورہ والأُسْطِیرۃ جمع أَسَاطِیر : لکھی ہوئی چیز، بے بنیاد بات کہتے ہیں۔ اِنْ ھذا الا اَسَاطِیرُ الاوّلِین : یہ تو پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی حیرت انگیز باتیں ہیں، جن کی کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ المِسْطَرۃ و المِسْطَرَۃ جمع مَسَاطِر : کاغذ پر لکیریں کھینچنے کا رول، چپٹی، رول، عوام کے نزدیک سامان کا تھوڑا سا حصہ تاکہ وہ نمونہ ہو اور اس کا وصف اس سے معلوم ہو۔ المُسْتَطَر : مکتوب، لکھا ہوا۔ المسطار : پرکار۔

۲۔ سَطَرَ ـ سَطْرًا ہُ بالسیف : کو تلوار سے کاٹنا۔ — الرجُلَ : کو پچھاڑنا۔ السَّاطِر والسَّطَّار : قصائی، قصاب۔ السَّاطُور جمع سَوَاطِیر : گوشت کاٹنے یا ہڈی توڑنے کا قصاب کا بگدا۔ المُسْطار و المُسْطارۃ و المِسْطار والمِسْطارۃ : تیز شراب جو پینے والے کو پچھاڑ دے، پکانے سے پہلے انگور کا شیرہ، بلند غبار۔

سطع : ۱۔ سَطَعَ ـ سَطْعًا و سُطُوعًا و سَطِیعًا الغبارُ او الرائحۃُ او النورُ : غبار، بو یا روشنی کا بلند ہو کر پھیل جانا۔ — سَطَعًا : دراز گردن ہونا۔ اسطع م سَطْعَاء : دراز گردن (والا) — راسَہُ : گردن دراز کر کے سر اوپر کرنا۔ سَطَّعَ ہُ : کو بلند کرنا، پھیلانا، اٹھانا

السَّطع (مص): غبار، روشنی، یا برق جو اونچی ہو کر پھیل جائے۔ السِّطَاع: جمع سُطُع و اُسْطِعَة (ح): لمبا اونٹ، خیمہ یا گھر کا بلند ترین ستون۔ السَّطِیع: صبح، لمبا، دراز۔ المِسْطَع: خوش بیان، فصیح۔ خطیبٌ مِسْطَع و مِصْقَع: خوش بیان خطیب

۲۔ سَطَعَ - سَطْعًا و سُطُوعًا و سَطِیعًا بیدیه: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔ ـــ سَطْعًا الشیءَ: کو چھونا۔ السَّطْع: تالی، تالی بجانے یا تیر پھینکنے کی آواز۔

۳۔ سَطَعَ - سَطْعًا البعیرَ: اونٹ کی گردن یا پہلو پر لمبا داغ لگانا۔ سَطَّعَ البعیرَ: اونٹ کی گردن یا پہلو پر لمبا داغ لگانا۔ السِّطَاع: جمع سُطُع و اُسْطِعَة: اونٹ کی گردن یا پہلو کا لمبا داغ۔

○ سَطَعَ - سَطْعًا و سُطُوعًا: اٹھنا، (گرد و غبار اور خوشبو) کا پھیلنا، چمکنا، تابندہ، درخشاں ہونا، چمکدار، روشن، منور، تاباں ہونا، واضح، صاف، آشکار ہونا۔ سَطْع: چمک، تابندگی، درخشانی، چمکداری، روشنی، دبک، تنویر، درخشانی، تابندگی۔ سَطْع: دھک دھک، گدا کا، بھدا کا، دھڑام سے گرنا۔ سطوع بمعنی سَطْع: اَسْطَع: زیادہ چمکدار، زیادہ روشن، روشن تر، واضح تر، صاف تر، ظاہر تر۔ ساطِع جمع سَوَاطِع: چمکدار، روشن، چمکیلا، چمکدار، تاباں، تابندہ، روشنی دینے والا، واضح، صاف، ظاہر، بدیہی، بیّن (ثبوت)

سطل: ا۔ سَطَلَ - سَطْلاً ہُ الدواءُ: دوا کا کسی کو مدہوش کرنا، نشہ دینا۔ ـــ ہٗ: کو ششدر کرنا، اچنبھے میں ڈالنا، سخت حیران کرنا۔ اِنْسَطَلَ و اِسْتَطَلَ: ششدر ہونا، حیران ہونا۔ تَسَیْطَلَ: کہتے ہیں۔ جاء یَتَسَیْطَلُ: وہ اکیلا آیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ الساطِل من الغبار: بلند غبار۔ السَّطْل: لمبا، دراز قد آدمی۔ السَّطْلَة والمسطُول: بیوقوف۔ (عام بول چال میں)

۲۔ السَّطْل جمع اَسْطَال و سُطُول: تانبے وغیرہ کا ایک دستے والا برتن، بالٹی، ڈول (فارسی لفظ) السَّیْطَل بمعنی السَّطْل: کہتے ہیں کہ السیطل تسلی: کو کہتے ہیں۔ الاسطول جمع اساطیل: بحری یا ہوائی جہازوں کا بیڑہ۔ اسطولٌ بحریٌّ: بحری بیڑہ۔ اسطولٌ جوّیٌّ: ہوائی جہازوں کا بیڑہ۔

○ سَطَلَ۔ سَطْلاً ہُ: کو نشہ چڑھانا، مخمور کرنا، مدہوش کرنا۔ سَطِل: نشہ ہو جانا، کا مخمور ہونا، مدہوش ہونا۔ سَطْل: جمع اُسْطَال و سُطُول: بالٹی، ڈول، لکڑی یا دھات کی بالٹی۔ bucket

سطم: ا۔ سَطَمَ - سُطُمًا الباب: دروازہ بند کرنا۔ عوام کہتے ہیں۔ سطم فاہ وسطم الثقب: منہ بند کرنا، سوراخ بند کرنا۔ (سریانی لفظ) السِطام: بوتل کا ڈاٹ یا کارک۔

۲۔ السُّطُم: جڑیں۔ السِّطَام: آگ ہلانے کی کریلنی۔ ـ والسَّطَم: تلوار کی دھار۔ الاسطام: کریلنی۔ الأُسْطُمّ والأُسْطُمَّة من کل شیء جمع أساطم: ہر چیز کا درمیانی اور بڑا حصہ۔ ـــ من البحر: سمندر کی گہرائی۔ اسی سے ہے۔ ولیل طَمَا اُسْطُمُّهُ: رات کی تاریکی بڑھ گئی۔ اُسْطُمَّةُ القوم: قوم کے اکٹھے ہونے کی جگہ یا اجتماع، قوم کے اشراف کہتے ہیں۔ هو فی أسطمة قومه: وہ اپنی قوم کے اشراف میں ہے۔

○ سِطام: بلگ، ڈاٹ کاگ۔ Stopper

سطن: الساطِن: خبیث الأُسْطُون من الجمال: لمبی گردن والا اونٹ۔ الأُسْطُوانَة جمع أساطین و أساطِنَة: ستون، تھم، جانور کی ٹانگ۔ المُسْطَنّ: لمبی ٹانگوں والا۔ المُسْطَنَّة: کہتے ہیں۔ أَساطِینُ مُسْطَنَّةٌ: مضبوط ستون۔

○ أُسطوانة جمع أسطوانات: ستون، تھم، کھمبا، لاٹھ، سلنڈر (انجن کا) فونوگراف ریکارڈ، جمع أساطین: بلند ممتاز شخصیات، ستارے، مشہور شخصیتیں، حکام، ارباب اختیار۔ اساطین الفن: عظیم فنکار (لوگ) اُسْطُوانی: سلنڈر کا، سلنڈر کے متعلق۔

سطا: سَطَا - سُطُوًّا و سَطْوَةً به و علیه: کو حملہ کر کے مغلوب کرنا۔ ـ الفرسُ: گھوڑے کا چوڑے چوڑے قدم اٹھاتے ہوئے دوڑ پڑنا۔ ـ الماءُ: پانی کا زیادہ ہونا۔ ماسطوتُ فی طعامِ أحدٍ: میں نے کسی کا کھانا نہیں کھایا۔ ساطَی الرجلَ: سے سختی یا نرمی کا برتاؤ کرنا۔ (ضد) أَسْطَی اِسطاءً علیه بمعنی سطا۔ السَّاطِی (فا) دور دور قدم رکھنے والا گھوڑا۔ دوڑتے ہوئے اپنی دم اوپر اٹھانے والا گھوڑا۔

○ سَطَا - سُطُوًّا و سَطْوَةً ب / علی پر اچانک حملہ کرنا اور قبضہ کرنا، پر جھپٹنا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا، کی گت بنانا، پر حملہ کرنا (صلہ علی) -- علی: (کسی جگہ) نقب لگانا، سیندھ لگانا، چوری کرنا -- علی: (کسی جگہ) میں بہ زور داخل ہونا، زبردستی گھس جانا۔ سَطْو حملہ، نقب زنی، سیندھ۔ سطوة جمع سَطَوات: حملہ، اثر، اختیار، اقتدار، احتمال، مفروضہ، دیدہ دلیری، شوخ چشمی، غرور، تکبر، نخوت، قوت، طاقت۔

سعّ: ا۔ سَعْسَعَ و تَسَعْسَعَ فلانٌ: بہت بوڑھا ہونا۔ ـــ الشیخُ: بوڑھے کا بڑھاپے کی وجہ سے لڑکھڑانا، قریب قریب قدم رکھنا۔

۲۔ سَعْسَعَ رأسَهُ: سر کو تیل سے تر کرنا۔

۳۔ السُّعْسُع (ح): بھیڑیا۔

سعب: تَسَعَّبَ الشیءُ: لجلجا، لچیلا، لچک دار ہونا، ربڑ کی طرح ہونا، کھنچتا چلا جانا۔ اِنْسَعَبَ الماءُ: بہنا۔

سعت: السَّعْتَر او الصَّعْتَر (ن): پہاڑی پودینہ۔ السَّعْتَرِی او الصَّعْتَری: سخی، بہادر، چالاک۔

سعد: ا۔ سَعَدَ - سَعْدًا و سُعُودًا الیومُ: مبارک ہونا۔ سَعِدَ - وسُعِدَ سَعادةً: نیک بخت ہونا، خوش نصیب ہونا۔ سَعِید جمع سُعَداء و مَسْعُود جمع مَسَاعِید: نیک بخت، خوش نصیب۔ اَسْعَدَهُ اللّٰهُ: اللہ اس کو نیک بخت کرے۔ ایسا شخص مَسْعُود کہلاتا ہے۔ اُسے مُسْعَد نہیں کہتے۔ تَسَعَّدَ: مبارک ہونا۔ اِسْتَسْعَدَ بالشیءِ: کو اپنے لئے مبارک خیال کرنا۔ کہتے ہیں: اسْتَسْعَدَ فلانٌ بِرُؤیة فلان: اس نے فلاں شخص کو دیکھنا مبارک سمجھا۔ السَّعْد جمع أَسْعُد و سُعُود: برکت، خوش نصیبی۔ سَعْدَیک کہتے ہیں۔ لبَّیکَ و سَعْدَیک: میں تمہاری خدمت کے لئے بار بار حاضر ہوں۔ السعادة: خوش بختی۔ تعظیم کا لفظ ہے۔ بعض عالی منصب اور بڑے لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ سَعادةُ فلان، صاحبُ السعادة اور اصحاب السعادة۔ سَعْدان: اِسعاد: کا اسم ہے۔ کہتے ہیں۔ سبحان اللّٰه و سُعْدانَه: میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں۔ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ السُّعُودة: نحوست کا الٹ۔

۲۔ ساعَدَهُ علی الامر: کی کسی کام میں مدد کرنا۔ سَعْدَه علی الامر: کی کسی کام میں مدد کرنا۔ الساعِد (فا) جمع سَوَاعِد: سردار کہتے ہیں۔ مالهم ساعد یعتمدونه: ان کا کوئی سردار نہیں کہ اس پر بھروسہ کریں۔ کلائی۔ کہتے ہیں۔ شَدَّ اللّٰهُ علی ساعِدِك: اللہ تمہاری مدد کرے۔ ساعِدا الطیر: پرندے کے بازو۔ کہتے ہیں۔ طائرٌ شدید السواعد: مضبوط بازو والا پرندہ۔ الساعِدة: چرخی کا ڈنڈا۔ سواعد کا واحد، نہر یا سمندر میں پانی جانے کا نالہ۔ ہڈی کے مغز کی نالی، تھن کے دودھ کی نالی۔ بازو بند۔

۳۔ تَسَعَّدَ الراعی: چرواہے کا سعدان گھاس کی چراگاہ تلاش کرنا۔ السُّعْد (ن): سُرد (cyperus) (ایک درخت) السُّعَادَی: زخم بھرنے والی ایک

خوشبودار گھاس (ن) ایک پودا۔ السُّعْدان (ن): ایک خار دار بوٹی جو اونٹ کی مرغوب غذاء ہے۔ اس بارے میں ضرب المثل ہے۔ مَرْعًى ولا کالسَّعْدان: (ایک چیز کی عمدگی اور دوسری پر برتری ظاہر کرنے کے لئے بیان کی جاتی ہے۔)

۴۔ سُعُودُ النجوم (فلکیات): دس ستارے جن میں سے ہر ستارہ سَعْد کہلاتا ہے۔ السَّعْدان (ح): بے دم کا بندر، بوزنہ۔ السَّعْدانة (ح): کبوتر۔ سَعْدَانَةُ الثَّدْيِ: پستان کا سرا یا اس کے آس پاس کی سیاہی۔

◌ سَعِدَ ۔ وسَعِدَ سَعْدًا و سَعَادَةً: خوش ہونا، مسرور ہونا، خوش آئند ہونا، خوش قسمت ہونا، خوش نصیب ہونا۔ سُعِدَ بِ: کسی چیز کے ملنے یا اس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنا۔ سَاعَدَهُ: کی مدد کرنا، کو امداد دینا، کی اعانت کرنا (فی/علی: میں، سے) ــــ هُ: کا ہاتھ بٹانا۔ (فی/علی میں) ــــ هُ: کی تائید کرنا، حمایت کرنا، کی پشت پر رہنا یا کی پشت پناہی کرنا۔ (علی/فی میں) ــ علی/ل/فی: کا سبب بننا۔ میں ممد ہونا، کا باعث ہونا۔ علی/فی: کی مدد کرنا، ہمت افزائی کرنا، ہمت بڑھانا، کی جرات دلانا۔ أسْعَدَهُ: کو خوش کرنا، مسرور کرنا، کی مدد کرنا۔ أسْعَدَهُ الحظُّ: سعادت حاصل کرنا (ب کی)۔ سَعْد: خوش قسمتی، خوش بختی، خوش نصیبی۔ الْهَيْئَةُ السَّعْدِية: سعدین (مصر کی ایک سیاسی تحریک) السَّعْدِيُّون: سعدی، سعد زغلول (۱۸۵۶ـ۱۹۲۷) کے حامی، پیرو۔ سَعِيْد جمع سُعَدَاء: مسرور (ب، پر کے متعلق) منور، تاباں، چمکدار، روشن، مبارک، مسعود، خوش قسمت، خوش بخت، خوش نصیب، موزوں، برمحل، برمحل، باموقع، مناسب حال۔ سَعِيْدُ الذکر: مقدس یاد کا حامل، مرحوم۔ سَعَادَة: خوشی، سعادت، انتہائی خوشی، مسروری، خوش قسمتی، کامیابی، فروغ، پاشا کا لقب۔ سعادةُ (نام) افسران بالا کا خطاب (شام، لبنان میں) سعادتکم: والاحضرت۔ صاحبُ السعادة: والاحضرت۔ دار السعادة: (استنبول کا قدیم نام) سعودی: سعودی۔ المملكةُ العربيةُ السعودية: سعودی عرب۔ سَعْدَان جمع سَعَادِين: بوزنہ، بے دم کا بندر۔ سَعْدَانة جمع سَعْدَانات: سرپستان، بھٹنی، چوچی۔ سعدانة الباب: دروازہ کا دستہ، لٹو، موٹھ۔ أسْعَد: زیادہ خوش، زیادہ خوش نصیب۔ سَاعِد جمع سَوَاعِد: بازو کا اگلا حصہ (کہنی سے کلائی تک) هو ساعده الايمن: وہ اس کا دست راست ہے، وہ اس کے لئے ناگزیر ہے۔ اِشْتَدَّ سَاعِدُهُ: مضبوط و طاقت ور ہونا۔ فَتَّ في ساعده: کو کمزور کرنا۔ سَاعِدة جمع سواعد: معاون دریا۔ مَسْعُود جمع مَسَاعِيد: خوش، خوش قسمت، خوش نصیب، مبارک، مسعود۔ مساعد: مددگار، مدد، اسسٹنٹ (صفت و اسم) ایڈ جوئنٹ (کمانڈنگ افسر کا نائب، معاون) مُسْعَد: خوش نصیبی سے نوازا ہوا، خوش قسمت، خوش بخت۔

سعر: ۱۔ سَعَرَ ۔ سَعْرًا النارَ: آگ جلانا۔ سعرناهم بالنبل: ہم نے انہیں تیروں سے جلایا اور تکلیف پہنچائی۔ سُعِرَ الرجلُ: گرم ہوا سے جھلس جانا۔ سَعَّرَ و أسْعَرَ النارَ: آگ جلانا۔ تَسَعَّرَتِ النارُ: آگ کا جل پڑنا۔ ــــ الحطبُ: لکڑی کا آگ پکڑ لینا۔ اِسْتَعَرَ: بھڑکنا۔ السُّعْر: گرمی، بہت بھوک۔ السُّعْرَة (ف): حرارت کی مقدار ناپنے میں اکائی۔ رمیٌ سُعْرٌ: انتہائی دردناک تیر اندازی۔ السُّعْرَةُ: کام کی ابتداء اور شدت، کھانسی۔ السُّعَار: گرمی، پیاس کی شدت، بھوک کی تیزی۔ السَّعِير: جمع سُعُر: آگ کی لپٹ۔ السَّاعُور: آگ، تنور۔ الساعورة: آگ۔ المِسْعَر: آگ جلانے والا (کہتے ہیں: هو مسعر ضرب: وہ لڑائی کی آگ بڑھکانے والا ہے)۔ حرارت ناپنے کا آلہ، سخت۔ کلبٌ مِسْعَرٌ: پاگل کتا۔ المِسْعَار: آگ کریدنی، سلاخ کرچھا۔ المُسْعُور: پیٹ بھرنے پر بھی کھانے کا حریص۔

۲۔ سَعَرَ البعيرُ الابلَ بجربه: اونٹ کا دوسرے اونٹوں میں خارش پھیلا دینا۔ ـ القومَ شرًّا: ساری قوم میں بدی پھیلانا۔ أسْعَرَ البعيرُ الابلَ بجربه: اونٹ کا دوسرے اونٹوں میں خارش پھیلا دینا۔ اِسْتَعَرَ الجرب في البعير: اونٹ کی بغل وغیرہ میں کھجلی شروع ہونا۔ ــــ الشرُّ: برائی پھیلنا۔ السُّعْر: وباء۔ مُسَاعِر البعير: اونٹ کی بغلیں اور وہ تمام حصے جہاں میل جما ہوتا ہے کہتے ہیں۔ اخذ الجربُ في مساعر البعير: اونٹ کی بغلوں میں خارش پیدا ہوگئی۔

۳۔ سَعَرَ ۔ سَعْرًا الليلَ بالمطيِّ: رات سواری پر سفر کرتے گزارنا۔ ـ تِ الناقةُ في سَيْرِها: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔ سَعُور: تیز رفتار اونٹنی کہتے ہیں۔ سعرتُ اليوم في حاجتي سَعْرَةً: آج میں اپنی ضرورت کے سلسلہ میں سارا دن سرگرداں رہا، چکر کاٹتا رہا۔ سُعِرَ البعيرُ: اونٹ کا پاگل ہوجانا۔ مسعور: پاگل اونٹ۔ سَعِرَ ۔ سَعَرًا الفرسُ: گھوڑے کا سرپٹ دوڑنا۔ السُّعْر و السُّعُر: پاگل پن۔ السُّعُر جمع سَعْرَى: پاگل ناقة مسعورة: دیوانی اونٹنی، جو غم کی وجہ سے ایک جگہ نہ ٹکے۔

۴۔ سَعَّرَ الشيءَ: کا اندازہ لگانا یا نرخ مقرر کرنا۔ ــــ القومُ: لوگوں کا کسی بھاؤ پر متفق ہونا۔ سَاعَرَ مُسَاعَرَةً هُ: کے ساتھ بھاؤ یا نرخ ٹھہرانا۔ السِعر جمع أسْعار: قیمت، نرخ، بھاؤ۔

۵۔ السَّعَر و السُّعْرَةُ: سیاہی مائل رنگ۔ الساعُور: بکری کا پہلے سال کی عمر کا بچہ۔ الأسْعَر م سَعْراء جمع سُعْر: دبلا پتلا جس کے پٹھے دکھائی دیں، سیاہی مائل رنگ والا۔ المِسْعَر: لمبی گردن۔

◌ سَعَرَ ۔ سَعْرًا ه: (آگ) جلانا، (جنگ) شروع کرنا یا بھڑکانا۔ سُعِرَ: دفعۃً جل اٹھنا، پاگل ہوجانا۔ سَعَّرَ ه: (آگ) جلانا (جنگ) شروع کرنا، بھڑکانا۔ ـ ه: کی قیمت لگانا یا مقرر کرنا۔ سَاعَرَه: کے ساتھ نرخ یا بھاؤ کے متعلق سودا کرنا، معاملہ طے کرنا، بول تول کرنا۔ أسْعَرَ ه: (آگ) جلانا۔ تَسَعَّرَ: جلنا، بھڑکنا، آگ بھبھوکا ہوجانا۔ اِنْسَعَرَ: پاگل ہونا، طیش میں آنا۔ اِسْتَعَرَ: جلنا، بھڑکنا (جنگ کا) یکایک شروع ہونا۔ سِعْر جمع أسْعار: قیمت، نرخ، ایکسچینج کا نرخ (شاک مارکیٹ) قیمت۔ سعر الخصم: منہائی کا نرخ، بینک کا نرخ۔ سعر التسليف: سود کا نرخ، شرح سود۔ سعرُ الفائدة: شرح سود۔ سعرُ القَطْع: منہائی کا نرخ، بینک کا نرخ۔ سعر القِطْعة: ٹکڑے کی قیمت۔ سُعْر و سُعُر: پاگل پن، جنون، پرلے درجہ کی حماقت۔ سَعِير جمع سُعُر: بھڑکتا شعلہ، آگ، لپٹ، دوزخ، جہنم۔ مِسْعَر جمع مَسَاعِر و مِسعار جمع مَسَاعير: آگ کریدنی، سلاخ (آگ کو چھیڑ کر تیز کرنے کے لئے) تَسْعِير: قیمت لگانا یا مقرر کرنا۔ تَسْعِيرَة: قیمت لگانا، مقرر کرنا۔ لجنة التسعيرة: قیمتیں مقرر کرنے والا کمشن تَسْعِرة: قیمت (شاک ایکسچینج) مَسْعُور: پاگل، سودائی۔

سعط: سَعَطَ ۔ سَعْطًا و سَعَّطَ و أسْعَطَهُ الدواءَ: کی ناک میں دوا ڈالنا کہتے ہیں۔ أسْعَطَهُ الرمحَ: اس کی ناک میں نیزہ مارا۔ أسْعَطَهُ عِلْمًا: اس نے اس کو علم خوب سمجھایا۔ اِسْتَعَطَ الدواءَ: ناک میں دوا ڈالنا۔ اِسْتَعَطَهُ: کو ناک میں دوا ڈالنے کے لئے کہنا۔ السُّعاط: بو کی تیزی۔ السَّعُوط (طب): ناک میں ڈالنے کی دوا، نسوار، عام لوگ اسے عطوس کہتے ہیں۔ السَّعِيط: بو کی تیزی، شراب وغیرہ کی خوشبو (ن) بان کا درخت، بان کے درخت کا تیل، رائی کا تیل۔ المِسْعَط و المُسْعُط: نسوار کی

ڈبیہ۔
اِسْتَعَطَ ہٗ: (نسوار) لینا، کھانا۔ سَعُوط: نسوار۔ مِسْعَط: نسوار کی ڈبیا۔

سعف: ا۔سَعَفَ - سَعْفًا ہٗ بحاجته: کی حاجت روائی کرنا۔ ساعَفَ ہٗ: کی مدد کرنا۔ اَسْعَفَ ہٗ بحاجته: کی حاجت روائی کرنا۔ - ہٗ علی الأمر: کی کسی معاملہ میں مدد کرنا، مدد دینا۔ - بالرجُل: کے قریب ہونا۔ الشیُ: قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ - الیه: کی طرف توجہ کرنا، کا ارادہ کرنا۔ لَہٗ الصیدُ: کو شکار کا موقعہ ملنا۔ - تِ الحاجة: حاجت کا قریب ہونا۔ المُساعِف (فا): قریب، نزدیک، کہتے ہیں۔ مکانٌ مُساعِف: قریب کی جگہ۔

۲۔سَعِفَ - سَعَفًا: ناخنوں کے اردگرد سے انگلیوں کا پھٹ جانا۔ سُعِفَ: پھنسیوں والا ہونا۔ مَسْعُوْف: پھنسیوں والا۔ تَسَعَّفَ تِ اظفارہٗ: ناخنوں کا پھٹنا۔ السَّعْفَة (طب): سر یا چہرے پر نکلی ہوئی پھنسیاں۔ السَّعَف (طب): اونٹ کے منہ کی خارش کی طرح کی بیماری۔ الأَسْعَفُ من الاِبِل م سَعْفَاء جمع سُعْف: منہ کی بیماری والا اونٹ۔ السُّعَاف (طب): ناخنوں کے گرد، پھٹن اور چٹ اکھڑنا۔

۳۔سَعَّفَ المسكَ: مشک کو دوسری خوشبوؤں سے ملانا۔

۴۔السَّعَف: سامان، خسیس و حقیر آدمی۔ السَّعَف جمع سُعُوف: دلہن کا جہیز، گھر کا اسباب۔ واحد سَعَفَة: کھجور کی شاخ۔ السُّعُوف: بڑے پیالے، انسان کی فطری عادتیں جیسے جود وسخا وغیرہ (اس کا مفرد مسموع نہیں) الأَسْعَفُ من الخیل م سَعْفَاء جمع سُعْف: سفید / بھوری پیشانی والا گھوڑا۔

ساعَفَ ہٗ: کی مدد کرنا، تائید کرنا۔ اَسْعَفَ ہٗ ب: کی خواہش پوری کرنا، کو خوش کرنا، کی بات ماننا (ب میں) کو عطا کرنا (ب، کچھ) — ہٗ: کی مدد کرنا، کو مدد دینا۔ اِسْعَاف جمع اسعافات: امداد، ریلیف، مدد، طبی خدمت۔ الاسعاف: فرسٹ ایڈ۔ اِسْعَاف العَجَزہ: عمر رسیدہ لوگوں کی دیکھ بھال۔ جَمْعِیَّةُ الاسعاف: سول ایمبولینس سروس۔ رِجال الاسْعَاف: فرسٹ ایڈ والے، ایمبولینس والے، ہسپتال کے اردلی، ہسپتال کے طبی شعبہ کے لوگ۔ سَیَّارَۃُ الاسْعَاف: ایمبولینس Ambulance

سعل: ا۔سَعَلَ - سُعَالًا و سُعْلَةً: کھانسنا۔ اَسْعَلَ ہٗ: کو کھانسی میں مبتلا کرنا۔ السُّعَال (طب): کھانسی۔ قَصَبُ السُّعَال (ع ا): پھیپڑے کی رگیں۔ حَشِیْشَة السُّعال: نیز السُّعالی (ن): دوائی کا ایک پودا۔

السَّاعِل و المَسْعَل: گلا، حلق۔ جہاں کھانسی آئے۔

۲۔سَعِلَ - سَعَلًا: چست ہونا۔ اَسْعَلَ ہٗ: کو چست بنانا۔

۳۔اِسْتَسْعَلَ تِ المراۃُ: عورت کا چڑیل یا بھتنی جیسا ہونا۔ السِّعْلاۃ و السِّعْلاۃ و السِّعْلی جمع سَعَالی و سِعْلیات: بھتنی یا بھوت۔

سَعَلَ - سُعْلَةً و سُعَالًا: کھانسنا۔ سُعْلَة و سُعَال: کھانسی۔ السُّعال الدِیکی: کالی کھانسی۔ سِعْلی جمع سِعْلیات و سِعْلاۃ ج سَعال: (آسیب بھوت پریت بدروح کا مونث) بھتنی، چڑیل۔

سعم: ا۔سَعَمَ - سَعْمًا البعیرُ: اونٹ کا تیز رفتار ہونا، تیز چلنا۔ سَعُوم: تیز رفتار (اونٹ)۔ سیل مِسْعَام او مُسْعَام: تیز رفتار سیلاب، تند و تیز بہنے والا سیلاب۔

۲۔سَعَمَ - سَعْمًا و سَعَّمَ ہٗ: کو غذا دینا۔

سعن: ا۔اَسْعَنَ: سائبان بنانا، بڑا خیمہ لگانا۔ السُّعْنَة جمع سُعَن: شامیانہ، سائبان، خیمہ، اونٹ کا اوپر کا لٹکا ہوا اونٹ۔

۲۔السُّعْن جمع سِعَنَة: بڑا ڈول (چمڑے کا) السَّعْنُ: چربی، خالص شراب۔ السَّعْنَة: مبارک۔ منحوس (ضد)، کھانے کی کثرت یا قلت۔ کہتے ہیں۔ ماله سَعْنَة ولا مَعْنَة: اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ عید السَّعَانین: مشہور عید الشعانین ہے۔ عید فصح سے قبل اتوار کی عید (عبرانی لفظ)۔ ھو شیعہ نا (اس نے ہمیں نجات دی) سے ماخوذ۔

سعو: السَّعْو و السِّعْو و السِّعْوَة و السِّعْوَاء و السُّعْوَاء: رات کی ایک گھڑی۔ الأَسْعَاء: رات کی گھڑیاں۔ السَّعْوَة: رات کی ایک گھڑی، موم بتی، موم۔ السَّعَوِیّ: بیداری یا سفر کو بہت صبر سے برداشت کرنے والا۔

سعی: ا۔سَعَی - سَعْیًا: کام کرنا۔ سعی تِ الأَمَةُ: لونڈی کا زنا کرنا۔ فی حاجة الرجل: کی حاجت پوری کرنے کی راہ نکالنا، کی حاجت روائی کا باعث بننا۔ - لـلامر: کے حصول کا بندوبست کرنا۔ لِعیاله: اپنے دست نگر لوگوں کے لئے کسب معاش کرنا۔ سِعَایَةُ المُتَصَدِّق: صدقات کے کام سرانجام دینا۔ سَاعَی ہٗ: کوشش میں کسی پر غالب آنا کہتے ہیں۔ ساعانی فلانٌ فسعیته: وہ کوشش میں مجھ پر غالب آیا تو میں نے اس پر غلبہ حاصل کرلیا۔ اَسْعَی اِسْعَاءً الرجُلَ: سے کوشش کروانا۔ اِسْتَسْعَی اِسْتِسْعَاءً الرجُلَ: کو صدقات جمع کرنے پر لگانا اور صدقات دینے والوں سے وصول کرنے کا کام سونپنا۔ - العبدَ: آزادی حاصل کرنے کے لئے غلام سے کام کرانا۔ السَّاعی جمع سُعَاۃ (فا): محصل، اکثر استعمال صدقات وصول کرنے والا کے معنی میں ہوتا ہے۔ المَسْعَی جمع مَسَاعٍ: کوشش، مسلک، تصرف۔ المَسْعَاۃ جمع مَسَاعٍ: نیک کام۔

۲۔سَعَی - سَعْیًا: چلنا، دوڑنا۔ - الیه: کا قصد کرنا۔ سِعَایَةً و سَعْیًا بفلان عند الأمیر: حاکم سے کی چغل کھانا، کی بدگوئی کرنا۔ اَسْعَوا به: کی تلاش کرنا۔ السِّعَایَة (مص): چغل خوری۔ السَّاعِی (فا): ڈاکیا۔

سَعَی - سَعْیًا: جلدی جلدی حرکت کرنا، دوڑنا، تیز چلنا، چاند کا، آسمان کے آر پار حرکت کرنا۔ - الی: کی جانب بڑھنا، جانا۔ ل/ الی: کے لئے جدوجہد کرنا، سخت کوشش کرنا، کرنے کی آرزو کرنا، متمنی ہونا۔ - الی / لِ / وراء: کے لئے کام کرنا، کے حصول کے لئے دوڑ دھوپ کرنا، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا۔ - وراء: کے پیچھے دوڑنا کا تعاقب کرنا، کے حصول کے پیچھے لگا رہنا، کے حصول میں پیچھے لگا رہنا۔ — فی: کسی معاملہ میں قدم اٹھانا۔ به الی: کی کی طرف رہنمائی کرنا، پر مجبور کرنا۔ سعی فی الارض فسادًا: زمین پر برائی پھیلانا۔ سعی لِحَتْفِهِ بِظِلْفِهِ: اپنی آپ قبر کھودنا، اپنے آپ کی بربادی کا سامان کرنا۔ سعی فی خراب الشیُ: کی تباہی کے لئے کام کرنا، کی اندر ہی اندر جڑیں کھوکھلی کرنا۔ سَعَی - سَعْیًا و سِعَایَةً (ب): پر بہتان باندھنا۔ (عند / الی کے پاس)۔ عند / الی کے ہاں (ب) کو بدنام کرنا، کی ساکھ ختم کرنا۔ تَسَاعَی: کے لئے افراتفری میں آنا، جانا۔

السَّعْی: صفا و مروہ کے مابین، حج کے دوران سات دفعہ دوڑنے کی رسم، کوشش، جدوجہد، ڈھور ڈنگر، مال مویشی (Live Stock)۔ سِعَایَة: افترا پردازی، بہتان تراشی۔ سَاعٍ جمع ساعون و سُعَاۃ: قاصد، آفس بوائے، چپڑاسی، بہتان تراش، افترا پرداز۔ ساعی البرید: ڈاکیا۔

سغ: سَغْسَغَ الوتدَ: میخ کو اپنی جگہ سے ہلانا۔ - ہٗ فی التراب: کو مٹی میں دھنسانا۔ — رأسَهٗ بالدُّهن: سر کو تیل لگانا۔ — الدهنَ فی رأسه: سر میں تیل لگانا۔ تَسَغْسَغَ من الأمر: سے رہائی پانا، خلاصی پانا۔ - فی الأرض: زمین میں داخل ہونا۔

سغب: سَغَبَ / وسَغِبَ - سَغْبًا و سُغُوبًا و سَغَبًا و سَغَابَةً و مَسْغَبَةً: بھوکا ہونا۔ ساغِبٌ و سَغِبٌ و سَغْبَان م سَغْبَی جمع سِغَاب: بھوکا۔ اَسْغَبَ القومُ:

قوم کا قحط سالی میں مبتلا ہونا۔ السَّغَاب: بھوک
المُسْغَب: جائز۔

سَغِبَ - سَغَبًا: کا سخت آرزو مند ہونا۔ ــــ: بھوکا ہونا، بھوکا ہو جانا۔ سَغَب و سَغَابَةٌ: بھوک، فاقہ، فاقہ کشی۔ مَسْغَبَة: قحط۔ سَاغِب: بھوکا، فاقہ کش۔

سغد: سُغِدَ سَغْدًا: سوجنا، ورم ہونا۔ فصَالٌ سَاغِدَةٌ و سُغَدَةٌ و مُسَاغِدَةٌ: اونٹ کے دودھ سے سیراب اور موٹے بچے۔ السَّغْد (مص): ہلکی بارش۔

سغل: سَغِلَ - سَغَلًا: لاغر ہو کر جھریاں پڑنا۔ سَغِل: لاغر اور جھریوں والا۔

سغم: ۱- سَغَمَ هُ الماءَ: کو گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پلانا۔ ــ الوَلَدَ: بچے کو اچھی غذا دینا، بچے کی پرورش کرنا۔ سُغِمَ و أُسْغِمَ: کا اچھی خوراک دیا جانا۔ المُسْغَم و المُسْغَم: اچھی غذا والا، ناز و نعمت کی وجہ سے فربہ لڑکا۔

۲- أَسْغَمَ هُ: کو بہت ازا میں دینا۔

سغو: السَّاغُو او دقيق النخل: درخت خرما کے تنے کے گودے سے نکالا ہوا نشاستہ دار غذائیت والا آٹا۔
السَّاغُوِيَة (ن): خرما کے درخت کی ایک قسم جو سیام اور انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے۔ ایک درخت سے تقریباً چار سو ساغو بنایا جا سکتا ہے۔

سف: ۱- سَفَّ - سَفِيفًا الطائرُ او السحابُ: پرندہ یا بادل کا زمین کے قریب ہو کر اڑنا یا گزرنا۔ أَسَفَّ إِسْفَافًا الرجُلُ: کا بھاگ جانا، ادنی باتوں کے پیچھے پڑنا، کہتے ہیں۔ أَسَفَّ الى الامور الدنيّة: وہ ادنی باتوں کے قریب ہوا۔ الطائرُ او السحابُ: پرندے یا بادل کا زمین کے قریب ہونا۔ السِّفّ والسُّفّ (ح): ایک قسم کا باریک لمبا سانپ۔

۲- سَفَّ - سَفِيفًا الخوصَ: کو کھجور کی پتیوں سے بننا۔ (خُوص اسم جمع واحد خوصة) درخت خرما کے پتے)۔ أَسَفَّ الخوصَ: بمعنی سَفَّ - الشیءَ: بعض کو بعض سے ملا کر جوڑنا۔ ــ الأَمرَ: کے قریب ہونا۔ ــ النظرَ: تیز نظر سے دیکھنا۔ السُّفّة: کھجور کے پتوں کی ٹوکری۔ موباف۔ السَّفِيف (مص): کھجور کے پاتوں سے بنی ہوئی چیز۔ زین کا تنگ۔ السَّفِيفَة جمع سَفَائِف: کجاوہ باندھنے کا چوڑا، پٹا، یا تنگ۔ ــ من الخوص: کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی کوئی چیز۔

۳- سَفَّ - سَفِيفًا الماءَ: بہت پانی پی کر بھی سیراب نہ ہونا۔ ــ سَفًّا الدواءَ والسويقَ ونحوهما: دوا یا ستو وغیرہ کو سفوف کی شکل میں کھانا، پھنکی بنا کر پھانکنا۔ أَسَفَّ إِسْفَافًا البعيرَ: اونٹ کو خشک گھاس چرانا۔ ــ الفرسَ اللجامَ: گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالنا کہتے ہیں۔ ما أسفَّ منه بشيءٍ: اس نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ أُسِفَّ وجهُهُ: چہرے کا رنگ پلٹ جانا۔ إِسْتَفَّ الدواءَ: دوا پھانکنا، سفوف کی شکل میں کھانا۔ السُّفَّة: مٹھی بھر گیہوں وغیرہ۔ والسَّفُوف: دواء وغیرہ کی پھنکی۔

۴- سَفْسَفَ الدقيقَ: آٹا چھاننا۔ ــ العملَ: کام کو اچھی طرح نہ کرنا۔ ــتْهُ الريحُ: ہوا کا کسی چیز کو زمین پر اڑا دینا۔ السَّفْسَاف: ناکارہ اور ردی چیز۔ (کہتے ہیں: فلانٌ سفسافُ الكلام: اس کی بات کا معنی نہیں۔ یعنی وہ فضول گو ہے، بے تکی ہانکتا ہے، حقیر چیز۔ ــ من الدقيق: آٹے کا غبار کی طرح اڑنے والا باریک حصہ۔ ــ من التراب: باریک مٹی۔ ــ من الشعر: ردی و ناقص شعر۔ المُسَفْسِفَة: غبار اڑانے والی ہوا۔

۵- السَّفِيف: ابلیس کا نام۔

اسَفَّ: اترنا، ڈوبنا، پھسل پڑنا، جھکنا، مائل ہونا، گرنے لگنا (مجازاً) اسف الى: کس ذلیل حرکت پر اتر آنا (مجازاً)۔ ــ النظر اليه: کی طرف تیز نگاہ سے دیکھنا۔
اِستف ہ: (کوئی خشک چیز) کھانا، نگلنا، پھانکنا۔
سفوف: پاؤڈر کی شکل میں دوا۔ اسفاف: زوال انحطاط (مجازاً)، معمولی سی چیز، فضول بات۔

سفت: ۱- سَفِتَ - سَفَتًا: بہت پینے کے باوجود سیر نہ ہونا۔ السَّفِت: بے برکت کھانا۔

۲- سَفْتَجَ هُ: کے ساتھ ہنڈی کے ذریعے معاملہ کرنا۔ السُّفْتَجَة جمع سفاتج (ت): ہنڈی۔

سفح: ۱- سَفَحَ - سَفْحًا و سُفُوحًا الدمَ او الدمعَ: خون یا آنسو بہانا۔ ــ سَفْحًا و سُفُوحًا و سَفَحَانًا الدمعُ: آنسو بہنا، ٹپکنا۔ صفت سَافِح جمع سَوَافِح: (جیسے فارس و فوارس) سَفَّحَ الرجُلُ: بے فائدہ کام کرنا۔ سَافَحَا و تَسَافَحَا: زنا کرنا، بدکاری کرنا۔ سَفْحُ الجبل جمع سُفُوح: دامن کوہ، جانب کوہ اور گذرگاہ جس میں پانی بہتا ہے۔ السِّفَاح (مص): زنا کہتے ہیں۔ تزوج المرأةَ سِفَاحًا: سنت اور کتاب کے بغیر نکاح کیا۔ نیز کہتے ہیں۔ بينهم سِفاح: ان کے درمیان خونی لڑائی ہے۔ السَّفَّاح: بہت خون بہانے والا، بڑا فیاض، خوش بیان، شیریں کلام۔

۲- السَّفِيح: جوئے کا ایک تیر جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اون یا بالوں کی گون، موٹی چادر۔ الأَسْفَح: وہ شخص جس کے سر کے اگلے حصہ کے بال جھڑ گئے ہوں، صاف چندیا والا۔

سَفَحَ - سَفْحًا و سُفُوحًا (ہ): کو گرانا، بہانا۔ سَافَحَ ہ: کے ساتھ زنا کرنا، زنا کاری کرنا۔ تَسَافَح: زنا کرنا، بدکاری کرنا۔ سَفْح جمع سُفُوح: دامن کوہ سُفُوح جمع سپاٹ سنگلاخ جمع سَفَّاح: خون بہانے والا، قاتل سفاح: زنا، بدکاری۔

سفد: ۱- سَفَدَ - وسَفِدَ - سِفَادًا الذكرُ انثاه وسفد عليها وسافدها سِفَادًا و مُسَافَدَةً: نر کا اپنی مادہ سے جفتی کرنا۔ أَسْفَدَهُ: کو جفتی کرانا۔ إِسْتَسْفَدَ لبعيرَ: اونٹ پر پیچھے سے سوار ہونا۔

۲- سَفَّدَ اللحمَ: گوشت کو بھوننے کے لئے سیخ میں پرونا۔ السَّفُّود جمع سَفَافِيد: گوشت بھوننے کی سیخ۔

سفر: ۱- سَفَرَ - سُفُورًا: سفر پر نکلنا۔ سَفَّرَ الرجُلَ: کو سفر پر بھیجنا۔

سَافَرَ سِفَارًا و مُسَافَرَةً الى بلد كذا: کسی شہر کی طرف سفر کرنا، کے سفر پر روانہ ہونا۔ ــ فلانٌ: مرنا۔ تَسَفَّرَ: شروع رات میں آنا یا چرانا۔ إِنْسَفَرَتِ الاءبلُ: اونٹوں کا زمین میں جانا۔ السَّفْر: کہتے ہیں۔ رجُلٌ سَفْرٌ یعنی مسافر مرد۔ قومٌ سَفْرٌ: مسافر لوگ۔ ناقةٌ سَفْرٌ: سفر کرنے والی اونٹنی۔ ــــ جمع سافر جیسے صَحْب و صاحب: مسافرین السَّفَر جمع أَسْفَار: مسافت کو طے کرنا۔ السُّفْرَة جمع سُفَر: مسافر کا کھانا، دسترخوان۔ السَّافِر (فا) جمع أَسْفَار و سَفْر و سَفَرَة و سُفَّار و جمع الجمع أَسَافِر: مسافر۔ السَّافِرَة جمع سَوَافِر: مسافرین کہتے ہیں۔ کثرت السافرة هنا، قوم سَافِرة: یعنی یہاں مسافروں کی کثرت ہے اور مسافر لوگ مراد جو لوگ سفر پر ہیں۔ اس کی ضد حضر ہے۔ السَّفَّارَة: مسافر لوگ۔ المِسْفَر مِسْفَرَة والمِسْفَار: بہت سفر کرنے والا، سفروں کی طاقت رکھنے والا۔ المَسْفُور: سفر سے تھکا ہوا، درماندہ۔

۲- سَفَرَ - سُفُورًا تِ المرأةُ: عورت کا اپنا چہرہ کھولنا۔ سافر: کھلے چہرے والی عورت۔ ــــ الصبحُ: صبح کا روشن ہونا۔ ــ تِ الحربُ: لڑائی کا ختم ہونا۔ ــــ سَفْرًا البيتَ: گھر میں جھاڑو دینا۔ ــ تِ الريحُ الغيمَ: ہوا کا بادل کو اڑا لے جانا۔ ــــ الشيءَ: کو جدا جدا کرنا، پراگندہ کرنا۔ سَفَّرَ النارَ: آگ لگانا، جلانا، بھڑکانا۔ سَافَرَتْ عنه الحمّى: بخار کا کسی کو چھوڑ دینا، کسی کا بخار اترنا۔ أَسْفَرَ: چہرہ کھولنا۔ ــ الصبحُ: صبح کا روشن ہونا۔ ــــ الوجهُ: چہرہ کا حسین ہونا، چمکنا۔ ــــ تِ الحربُ: جنگ کا تیز ہونا۔ ــــ مُقَدَّمُ رأسِهِ: چندیا کے بال جھڑنا۔ ــــ الشجرُ: درخت کے پتے گرنا۔ تَسَفَّرَ المرأةَ: عورت سے

چہرہ کھولنے کو کہنا۔ ــــ شأ من هاجة: کچھ حاصل کرنا۔ اِنْسَفَرَ شعرُهُ عن رأسه: کے سر سے بال جھڑنا۔ ـ الغيمُ: بادلوں کا پراگندہ ہونا چھٹ جانا۔ اِسْتَسْفَرَ المرأةَ: عورت سے چہرہ کھولنے کو کہنا۔ السَفَر جمع أَسْفار: غروب آفتاب کے بعد کا وقت۔ السُفارة: جھاڑو سے جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ۔ السَفِير: گرے ہوئے بال یا پتے۔ السَفِيرَة جمع سَفائر: سونے یا چاندی کا ہار۔ المِسْفَرة جمع مَسافِر: جھاڑو۔ مَسافِرُ الوجه: چہرے کے کھلے ہوئے حصے کہتے ہیں: ما احسن مَسْفَرَ وجهه و مَسافِر وجوههم: اس کے یا ان کے چہروں کے کھلے حصے کتنے خوبصورت ہیں۔

۳۔ سَفَرَ ـِ سَفْرًا و سَفَارَةً و سِفارَةً بين القوم: لوگوں میں صلح کرانا۔ سفير جمع سُفَراء: صلح کرانے والا۔ السَفِير جمع سُفَراء: لوگوں میں صلح کرانے والا قاصد ایلچی۔ ایک حکومت کی طرف سے دوسری حکومت میں نمائندہ سفیر۔ السَفَارة و السِفَارة: سفیر کا عہدہ و منصب، لوگوں میں صلح کرانا۔

۴۔ سَفَرَ ـُ سَفْرًا البعيرَ: اونٹ کو نکیل ڈالنا، کو کاشت کا نچلا حصہ چرانا۔ سَفَّرَ البعيرَ: اونٹ کو نکیل ڈالنا۔ اَسْفَرَ البعيرَ: بمعنی سفر البعیر۔ تَسَفَّرَ الجلدُ: کھال کا متاثر ہونا۔ السِفار و السفارة جمع اَسْفِرة و سُفُر و سفائر: نکیل۔ السَفر جمع سُفُور (مص): انسانی جسم کا داغ۔ السَفِير: کھیتی کا نچلا حصہ۔

۵۔ سَفَرَ ـُ سَفْرًا الكتابَ: کتاب لکھنا۔ السِفْر جمع أَسْفار: بڑی کتاب تورات کا ایک جزء۔ السافِر جمع سَفَرة: لکھنے والا۔ السافِرة: سافِر کا مونث۔

۶۔ السُفُور (ح): خارپشت مچھلی۔

۷۔ السَفَرجَل (ن): بہی۔

☺ سفرت ـِ سُفُورًا عن وجهها: عورت کا چہرے سے نقاب ہٹانا، اپنے آپ کو بے نقاب کرنا۔ سَفَرَ ـِ سَفْرًا: (طلوع فجر، نور کے تڑکے، سویرے کا) روشن ہونا، دمکنا۔ سَفَّرَ ـه: کو بے نقاب کرنا، سے ڈھکنا اٹھانا، کو فاش کرنا، افشا کرنا، ظاہر کرنا۔ سَفَّره: کو سفر پر روانہ کرنا، کو چھوڑنے پر مجبور کرنا، کو دور بھیجنا۔ سَفَّره: کو بھیجنا، ارسال کرنا۔ سفّره: (مسافروں کو) جہاز پر سوار کرنا۔ سافَرَ: سفر کرنا، تفریحی سفر کرنا، سفر پر روانہ ہونا۔ أَسْفَرَ: (سویرے یا چہرہ وغیرہ کا) چمکنا، دمکنا۔ اسفر (عن کچھ): ظاہر کرنا، بے نقاب کرنا، سے نقاب اٹھانا، پردہ ہٹانا، ڈھکن ہٹانا۔ أَسْفَرَ (عن کچھ): حاصل کرنا، پر منتج ہونا، لانا، لے لینا۔ أَسْفَرَ (عن پر): انجام پذیر ہونا، ختم ہونا۔ أَسْفَرَ (عن کا): انجام ہونا، کا نتیجہ ہونا۔ انْسَفَرَ (گرد و غبار، بادل) اٹھنا، غائب ہونا، چھٹنا۔ السَّفْر: سفر کرنے والے، مسافرین۔ سِفر جمع أَسفار: کتاب (خصوصاً انجیل کا کوئی جزء) سَفَر: روانگی۔ جمع اَسفار: سفر، سیاحت، تفریحی سفر، دورہ۔ سفرة جمع سَفَرات: مندرجہ بالا معنے۔ سَفَرِيَة: ایضاً، روانگی۔ سُفْرة جمع سُفَر: کھانے کی میز۔ سُفْرجی جمع سُفْرَجية: ویٹر (کھانے لانے والا) سٹیوارڈ (Steward) سِفارة: سفارت خانہ۔ سافِر: بے نقاب، جس کا چہرہ کھلا ہو۔

سفس: ۱۔ السِفْسِير جمع سَفاسِرة و سَفاسِير: دلال، خادم، منتظم امور، ماہر اصوات، ظریف، ماہر لوہار، داروغہ۔

۲۔ السَفْسَطه و السِفسِطة جمع سفسطات: باطل استدلال و قیاس یا وہ چیز جس کا مقصد مغالطہ آفرینی ہو۔ سفسطه، سوسطائیت: مغالطہ آمیزی۔ سَفْسَطی و سو فسطائی: غلط دلائل سے دھوکا دینے والا (Sophist)۔ السُوفِسْطائِيه: محسوسات و بدیہیات کا منکر فرقہ۔

۳۔ سَفْسَقَ الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ السَفْسَقَة و السِفْسِقَة من السيف جمع سَفاسِق: تلوار کا جوہر۔ طريقٌ واضحُ السَفاسِق: واضح نشانات والا راستہ۔ السُفاسِق: ہر لمبی یا پھیلی ہوئی چیز۔

سفط: سَفَطَ ـِ سَفْطًا السمكةَ: مچھلی کا چھلکا اتارنا۔ عام بول چال میں کہتے ہیں۔ سَفَط حقه: اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ السَفَط جمع أَسْفاط: مچھلی کا چھلکا (Scales of a Fish) السَفِيط: درخت سے گری ہوئی سبز کھجور۔

۲۔ سَفُطَ ـُ سَفاطَةً: پاک نفس اور سخی ہونا۔ صفت سفیط۔ (هو سَفِيط النفس: وہ پاک دل ہے۔ کمینہ و ناکارہ (ضد)۔

۳۔ سَفَّطَ الحوضَ: حوض کی درستی کرنا اور اسے اونچا کرنا۔

۴۔ تَسَفَّطَ هُ: کو تھوڑا تھوڑا پینا۔ اِسْتَسْفَطَ الشيءَ: سب لے لینا، پی جانا۔ السَفَط جمع أَسْفاط: ٹوکری، جامہ دان۔

۵۔ السَفَّاط: ٹوکری بنانے والا۔ سُفاطَةُ البيت: گھر کا سامان۔ مُسَفَّطُ الرأسِ: بڑے سروالا۔

سفع: ۱۔ سَفَعَ ـَ سَفْعًا ه: کو مارنا اور طمانچے لگانا ـ الشيءَ: پر نشان لگانا۔ ـــ بناصيته: کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچنا۔ سافَعَ هُ: ایک دوسرے کو مارنا، طمانچے لگانا، ہٹانا، دھتکارنا، سینہ سے لگانا۔ ایک دوسرے سے لڑنا۔

۲۔ سَفَعَ ـَ سَفْعًا تِ السَمومُ وجهَهُ: گرم ہوا کا کسی کے چہرے کو جھلس کر دگرگوں کر دینا۔ سَفِعَ ـَ سَفَعًا: سرخی مائل سیاہ ہونا۔ تَسَفَّعَ بالنار: آگ سینکنا، تاپنا۔ اِسْتَسْفَعَ الرجلُ: مرد کا اپنے کپڑے پہننا۔ اُسْتُفِعَ لونُهُ: کا خوف وغیرہ سے رنگ متغیر ہونا۔ السُفْع: اندرائن کا بیج۔ السُفْعَة: اندرائن کا بیج، سرخی مائل سیاہی۔ السَفْع (مص) جمع سُفُوع: رنگا ہوا کپڑا، کپڑا۔ السَفَع: سرخی مائل سیاہی۔ سُفَعُ الشمس: آفتاب کے سیاہ داغ۔ ـ الثور: بیل کے چہرے پر سیاہ نقطے۔ السوافِع (مفرد سافِعَة): لو کی لپٹیں۔ الأَسْفَع م سَفْعاء جمع سُفْع: سرخی مائل سیاہ رنگ والا (ح) جنگلی بیل، باز، شکرا، شاہین۔ ثورٌ مُسَفَّع: بیل جس کے چہرے پر سیاہ نقطے ہوں۔ كَمِيٌّ مُسَفَّع: کالا ہتھیار بند (لوہے پر زنگ لگنے کی وجہ سے) مَسْفُوع العين: دھنسی ہوئی آنکھوں والا۔

☺ سَفَعَ ـَ سَفْعًا ه: (گرم ہوا وغیرہ کا) کسی کو جھلسنا، جلانا ـ ه: کی کھال / جلد وغیرہ کو جھلسنا۔ سَفَعَ: (پرندہ کا) اپنے پر پھڑپھڑانا۔ ـ ه: کو ہاتھ سے مارنا، ضرب لگانا، تھپڑ مارنا۔ ـ ه: (طوفان کا) کسی چیز کو ادھر ادھر لے جانا۔ سَفع: جلی ہوئی جگہ۔ سُفْعَة جمع سُفَع: کالا دھبہ، سیاہ داغ یا نشان۔

سفق: ۱۔ سَفَقَ ـِ سَفْقًا ه: کو طمانچہ مارنا۔ الباب: دروازہ بند کرنا۔ أَسْفَقَ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ اِنْسَفَقَ البابُ: دروازہ بند ہونا۔ السَفْقَة: طمانچہ، تھپڑ، کہتے ہیں۔ اعطاه سفقة يمينه: اس نے اس کی بیعت کرلی۔ السَفِيقَة: سونے وغیرہ کا ورق۔

۲۔ سَفُقَ ـُ سَفاقَةً الثوبُ: کپڑے کا گف ہونا، گاڑھا ہونا۔ أَسْفَقَ الحائكُ الثوبَ: جولاہے کا کپڑے کو گاڑھا بننا۔ السَفِيق: گاڑھا۔ رجلٌ سَفِيقُ الوجه: بے حیا آدمی۔ السَفِيقَة: لکڑی کا چوڑا اور لمبا ٹکڑا جس پر چٹائیاں وغیرہ لپیٹی جاتی ہیں۔

سفك: سَفَكَ ـِ سَفْكًا الماءَ او الدمَ: پانی یا خون بہانا، گرانا۔ الكلامَ: بہت بولنا۔ سَفَّكَ هُ: کو سُفْكة: (تھوڑی سی خوراک جو ناشتہ سے پہلے کھائی جاتی ہے) پیش کرنا۔ انْسَفَكَ: بہنا، گرنا۔ السُفْكَة: ناشتہ سے پہلے کھائی جانے والی تھوڑی سی خوراک۔ السَفُوك و السَفَّاك: بہت خون گرانے والا۔ کہتے

ہیں۔ ھو سَفُوكٌ او سَفَّاكٌ بالکلام : یعنی وہ بڑا جھوٹا ہے۔ السَّفِيك : گرایا ہوا، بہایا ہوا، (پانی، خون)۔ رجُلٌ مِسْفَكٌ: بڑبولا، باتونی۔

⊙ سَفَكَ ـِ ـُ (الدم) : خون بہانا، گرانا۔ تَسَافَكَ : ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ اِنْسَفَكَ : بہنا، گرنا (خون کا) سَفْكُ الدِماءُ: قتل وغارت۔ سَفَّاك: خون بہانے یا گرانے والا

سفل: سَفَلَ ـُ وسَفِلَ ـَ سُفُولاً و سَفَالاً : نیچا ہونا، پست ہونا، حقیر ہونا، اسم فاعل۔ سَافِل جمع سافلون و سَفَلَة و سُفَّل و سُفَّال و سُفْلان : نیچا، پست، منکسر المزاج، عاجز، کمینہ، فرومایہ، ذلیل۔ سَفُلَ ـُ سُفُولاً و سَفَالاً : نیچا ہونا، پست ہونا۔ سَفْلاً و سُفْلاً و سَفَالاً فی علمه او خَلقه : علم اور اخلاق میں ادنی یا گھٹیا ہونا۔ ـــ سَفُولاً فی الشیء : کے اونچے حصہ سے اس کے نیچے کے حصے میں اترنا۔ سَفَّلَ هُ : کو نیچے اتارنا۔ سَافَلَ هُ : سے کمینہ حرکات میں مقابلہ کرنا۔ تَسَفَّلَ : رفتہ رفتہ نیچے آنا۔ اِسْتَفَلَ: اترنا۔ السِفْل و السُفْل: نچائی، پستی۔ السِفْلَة: سب سے نچلا حصہ۔ سِفْلَة و سَفِلَةُ القوم : قوم میں ادنی درجہ کے لوگ، گھٹیا لوگ، اراذل۔ السُفَالة: کمینگی۔ سُفَالَةَ کُلِّ شیءٍ: نچلا حصہ، تہہ، پیندا۔ سُفَالةُ الریحِ : ہوا کا نیچے کی طرف چلنا۔ السَفالَة: کمینگی، خساست۔ السَافِلة : ڈبر چوتڑ۔ من الرمح: نیزے کا نچلا حصہ کہتے ہیں۔ ماعالیة الرمح کسافلته : یعنی نیزے کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کے حصہ جیسا نہیں۔ سَافِلةُ النهر : ندی کا نشیبی حصہ۔ کہتے ہیں۔ مررتُ بعالیة النهر و سافلته: میں ندی کے اوپر اور نیچے کے حصہ سے گزرا۔ الأسْفَل جمع أسَافِل: سب سے نیچا، نچلا حصہ کہتے ہیں۔ رددنا ه أسفَلَ سافلین : ہم نے اسے انتہائی پست حالت میں لوٹا دیا اور پست سے پست تر کر دیا۔ السُفْلِیّ و السُفْلِیَة و السُفُول: نچلا، پستی کا اور نیچا۔ السِفِیل بمعنی سافل: کمبخت۔ المَسْفَلَة: نچلا حصہ، آپ کہتے ہیں۔ أنا أسکن فی معلاة المدینة و فلانٌ فی مسفلتها : میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں شخص اس کے نشیبی حصہ میں۔

⊙ سَفَلَ ـُ سُفُولاً و سَفَالاً و سَفِلَ ـَ سَفَلاً: نچا یا نشیبی ہونا۔ ـــ ہ: کے نیچے ہونا۔ ـــ: نیچے کی طرف مڑنا۔ سَفُلَ ـُ سَفَالَةً و سَفَلَ ـُ سَفْلاً: کمینہ، ذلیل، فرومایہ ہونا۔ تَسَفَّلَ : اپنے آپ کی تذلیل کرنا، پستی میں گرنا، بد سے بدتر ہونا، کمینگی کرنا۔ سُفْل : کسی چیز کا سب سے نچا حصہ۔ پیندا۔ سُفْلی: نچلا تر، تہ پر، نچا۔ سِفلة الناس : کمینے رذیل لوگ، اراذل۔ سَفَالَة : پستی، کمینگی، رسوائی، کھلی بے عزتی، فضیحت، فرومائیگی ذلت۔ جمع سَفالات۔ سُفَالَة: سب سے نچلا حصہ اسفل م سُفْلَی جمع أَسَافِل: زیادہ نچلا، نچلا تر، نچلا ترین، نچلا تر یا نچلا ترین حصہ، پیندا، تہہ۔ أسْفَلَ: کے نیچے۔ الارضُ السُفلی: نشیبی دنیا۔

سفن: ا۔ سَفَنَ ـُ سُفُنَاتِ الریحُ : ہوا کا سطح زمین پر چلنا۔ و۔ ـِ سَفْنًا الشیْ : کو چھینا، کا چھلکا اتارنا۔ سَفِنَ ـَ سَفُنَاتِ الریحُ : ہوا کا سطح زمین پر چلنا۔ سَفَّنَ هُ: کو تراشنا اور نرم کرنا۔ السَفَن: چوب تراشی کا آلہ۔ ریگمال (Sand paper) السَافِنَة و السَفُون من الریاح جمع سَوَافِن : سطح زمین پر چلنے والی ہوا۔ السَفِین : لکڑی پھاڑنے کی کیل یا پھانا ۔(یونانی لفظ) السَفِینَة جمع سُفُن و سَفِین و سَفَائِن : جہاز، کشتی (Boat, vessel, ship) السَفَّان: جہاز ساز، کشتی ساز۔ السِفَانَة: جہاز سازی، کشتی سازی۔ art or trad of ship building جہاز یا کشتی بنانے کا فن یا تجارت۔ سَفائِن البَرّ : اونٹ۔ (جمع) المِسْفَن: چوب تراشی کا اوزار۔

۲۔ السَفَن : کھردری کھال جس کو تلواروں کے قبضوں پر لگاتے ہیں۔ السَافِن (ع ا) : ریڑھ کی ہڈی کی اندرونی رگ جس سے دل کی شریانیں جڑی ہوتی ہیں۔ السَفَّانَة: موتی۔

⊙ سَفْلَتَ : سڑک پر اسفالٹ بچھانا یا اس پر Asphclt کا کوٹ کرنا۔ (اسفالٹ کولتار یا لک جس میں ریت ملائی گئی ہو) اَسْفَلْت: (asphalt) سَفْلَقَة: اسفنج سے دھونا، پونچھنا یا صاف کرنا۔ (sponging) سِفْلاق: طفیلی، مفت خورا۔ (sponger) سَفَنٌ: کھردری کھال جو پالش کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ سفینة مِدْفَعِیَّة: گن بوٹ gun-boat سفینة تعلیم یا سفینة تدریس: تربیتی جہاز (Training ship)

۳۔ سَفْنَجَ : جلدی کرنا۔ و۔ لِفلان النقد : کو جلد نقدی دینا۔ السَفَنَّج م سَفَنَّجَة: جلدی کرنے والا۔ لمبا۔ السَفَنْج و السِفَنْج و السُفِنج : اسفنج اسپنج (یونانی لفظ) Sponge

۴۔ الإ سْفِنْط و الإِ سْفَنْط: خوشبودار، رس، خاص طور پر انگور کا۔

سفہ: ا۔ سَفِهَ ـَ سَفُهاً الرجلَ : بیوقوفی میں دوسرے سے سبقت لے جانا۔ کو بے وقوفی پر آمادہ کرنا، یا اسے بیوقوف کہنا۔ ـــ نفسَهُ : اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔ ـــ نصیبَهُ : اپنا حصہ بھولنا۔ سَفِهَ ـَ سَفَهًا : بیوقوف ہونا، جاہل ہونا، بری عادت والا ہونا۔ سفیه جمع سِفَاه و سُفَهَاء م سفیهة جمع سِفاه و سُفَّه و سَفَائِه و سفیهات : بے وقوف، جاہل، بدخلق۔ ـــ نصیبَهُ : اپنا حصہ بھول جانا۔ سَفُهَ ـُ سَفَاهَةً و سَفَاهًا : جاہل ہونا، بیوقوف ہونا۔ سَفَّهَ الرجُلَ : کو بیوقوف بنانا یا بیوقوف کہنا۔ کہتے ہیں۔ سَفَّهَ الجهلُ حِلْمَهُ : جہالت نے اسے بیوقوف بنانا۔ سَافَهَ هُ : کو گالی گلوچ کرنا۔ تَسَفَّهَ الرجُلُ : بتکلف بے وقوف بننا۔ و۔ تِ الریحُ : ہوا کا مضطرب ہونا۔ ت الریحُ الغصونَ: ہوا کا ٹہنیوں کو جھکانا۔ فلاناً عن ماله: کا مال ٹھگ لینا۔ تَسَافَهَ علینا: وہ ہمارے سامنے جھوٹ موٹ بیوقوف بن گیا۔ السَفَه (مص): جہالت، بردباری سے تہی دامنی، بداخلاقی (اس کی اصل خفت اور اضطراب ہے) السَافِه (فا) : احمق، بے وقوف۔

۲۔ سَفِهَ ـَ سَفَهًا تِ الطعنةُ : گھاؤ سے فوراً خون نکل کر کم ہو جانا۔ ـــ الشرابَ: شراب بہت پینا۔ سَافَهَ الدنَّ: مٹکے کے پاس بیٹھ کر گھڑی گھڑی پینا۔ ـــ الشرابَ: بے اندازہ شراب پینا۔ أَسْفَهَ اللّٰهُ فلاناً الماءَ: بہت پلانا اور سیر نہ ہونے دینا۔ السَافِه (فا): بہت پیاسا۔ واد مُسْفَهٌ: بھری ہوئی وادی۔ المَسْفَهَة : بہت پیاس لگانے والی خوراک۔ طعام مَسْفَهَة: بہت پیاس لگانے والا کھانا۔

⊙ سَفِهَ ـَ سَفَهًا و سَفُهَ ـُ سَفَاهَةً : بے وقوف ہونا، احمق ہونا، سادہ لوح ہونا، کوتاہ اندیش ہونا، گستاخ ہونا۔ سَفَّهَ ہ/ہ : کو احمق یا احمقانہ کہنا۔: کو قانونی طور پر نااہل قرار دینا۔ ہ: کو حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا۔ سَفَّهَ نفسَه: اپنے آپ کو بے وقوف بنانا۔ سَفَّه وجهَهُ: کو بے نقاب کرنا، کی قلعی کھولنا، کو بے وقوف بنانا، کو بدنام کرنا، ذلیل کرنا۔ تسافه : جھوٹ موٹ کا بے وقوف بننا۔ سَفَه : بے وقوفی، حماقت، سادہ لوحی، گستاخی، بے شرمی، بے حیائی۔ سفیه: (اسلامی قانون میں) نااهل۔ سَفَاهَة : بے وقوفی، حماقت، سادہ لوحی، گستاخی، بے شرمی۔

سفا: ا۔ سَفَا ـُ سُفُوًّا : تیز چلنا یا اڑنا۔ سَفِیَ ـَ سَفًا و سَفَاءً : کی پیشانی پر کم بال ہونا۔ أسْفَی ت الناقةُ: اونٹنی کا لاغر ہونا۔ ـِ تِ الریحُ: ہوا کا چلنا۔ السَفَا : پیشانی کے بالوں کی کمی، خاک۔ دبلا پن۔ بغلٌ أَسْفَی م سَفْواء : پیشانی پر کم بالوں والا خچر، تیز

رفتار۔ ريحٌ سَفْواء: تیز رفتار ہوا۔

۲- سَفِيَ ـَ سَفًا و سَفَاءً الرجلُ: بے وقوف ہونا۔ سَفِي: بے وقوف، سادہ لوح۔ أَسْفَى: بیوقوف ہونا۔ ___ فلانًا: کو طیش پر آمادہ کرنا یا کسانا۔ ___ بہ: سے بدسلوکی کرنا۔ سَافَى الرجلَ: کو گالی گلوچ کرنا، کو گالی دینا۔

۳- سَفِيَ ـَ سَفًا و سَفَاءً ات يدُهُ: کا ہاتھ پھٹنا۔

۴- سَافَى الرجلَ: کا علاج کرنا۔ السِفاء: دوا۔

۵- أَسْفَى الزرعُ: غلہ کی بالی کے کناروں کا سخت ہونا۔ السَفَا واحد سَفَاة: ہر کانٹے دار درخت۔ ___ من السنبل: بالیوں کے کانٹے۔

سفی: سَفَى ـِ سَفْيًا و أَسْفَى إسفاءً تِ الريحُ الترابَ: ہوا کا خاک اڑانا یا اٹھالے جانا۔ سافية جمع سَافِيات و سَوَافٍ: خاک اڑنے یا اٹھالے جانے والی ہوا۔ سَفِيَ ـَ سَفْيًا الترابُ: خاک اڑنا یا بکھرنا۔ السَافِيَاء: غبار۔ السَفَى: جس کو ہوا اڑائے۔ السَفِيّ: پراگندہ غبار۔ الأَسْفَى من الخيل م سَفْيَاء جمع سُفْيٌ: پیشانی کے یا کم بالوں والا گھوڑا۔ المُسْفِي: چغل خور۔

○ سَفَى ـِ سَفْيًا و أَسْفَى ہ (ہوا کا) غبار کو اڑا کر بکھیرنا۔ سافِيَاء: غبار۔ مَسْفِيّ: جسے تیز گھمایا گیا ہو۔ کھلونا، کھیل تماشا (مجاز)

سفین: پھانا، فانا، پچر۔

سق: سَقْسَقَ الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔

○ سَقْسَقَة: پرندوں کا چہچہانا، چیں چیں کرنا۔

سقب: سَقِبَ ـَ سَقَبًا و سُقُوبًا ت الدارُ: گھر کا نزدیک ہونا۔ سَاقَبَ ت البيوتُ: گھروں کا ایک دوسرے کے قریب ہونا، پاس پاس ہونا۔ أَسْقَبَ تِ الدارُ: گھر کا قریب ہونا۔ ___ الدارَ: گھر کو قریب کرنا۔ مَنْزِلٌ سَقَبٌ: قریب کی منزل۔ السَاقِب (فا): قریب، دور (ضد)۔

۲- أَسْقَبَ تِ الناقةُ: اونٹنی کا زیادہ تر نر بچے جننا۔ السَقْب جمع أَسْقُب و سِقَابٌ و سُقُوبٌ و سُقْبان: اونٹنی کا وہ بچہ جس کو اس نے ابھی جنا ہو۔ نوزائیدہ بچہ۔ أَذَلُّ من السقبان بين الحلائب: دودھ دینے والی اونٹنیوں کے درمیان نوزائدہ بچوں سے زیادہ ذلیل۔ المِسْقَب و المِسْقاب: نوزائیدہ بچہ کی ماں۔ المِسقاب: وہ مادہ جو عادتاً نر بچے جنے۔

۳- السَقْبُ جمع سِقبان و السَقِيبة: خیمہ کا ستون۔ سرسبز، موٹی اور لمبی شاخ۔

سقد: سَقِدَ ـَ سَقَدًا و سَقَّدَ و أَسْقَدَ الفرسَ: گھوڑے کو دبلا کرنا۔ السُقْدُدُ جمع سُقَد و السُقَيْدة جمع سُقَيْدات (ح): سرخ رنگ کا ایک پرندہ۔

سقر: ۱- سَقَرَ ـُ سَقْرًا تُهُ الشمسُ: سورج کا کسی کو جھلسنا اور تپش سے اس کے دماغ کو تکلیف دینا۔ سَقَر: جہنم کا اسم علم ہے اور غیر منصرف ہے۔ السَقْرة جمع سَقَرات: سورج کی تپش۔ السَاقُور: گرمی، جانور کو داغنے کا لوہا۔

۲- أَسْقَرتِ النخلةُ: کھجور کے درخت سے شیرہ بہنا۔ السَقْر: راب، شیرہ۔ نخلةٌ مِسقارٌ: کھجور کا درخت جس سے شیرہ بہتا ہے۔

۳- السَقْر (ح) شکرا۔ السُقَر: کہتے ہیں۔ جاء بالسُقَر و البُقَر و ببنات غِيَر: اس نے صریح جھوٹ بات کی۔ السَقَّار جمع سَقَّارة: غیر مستحق پر بہت لعنت بھیجنے والا۔ کافر۔

○ سُقْراط: سقراط (Socrates)

سقط: ۱- سَقَطَ ـُ سُقُوطًا و مَسْقَطًا: زمین پر گرنا کہتے ہیں۔ سَقَطَ من عيني: وہ میری نظر سے گر گیا یعنی میرے نزدیک حقیر ہوگیا۔ ___ الحرُّ: گرمی پڑنا۔ ___ الحرُّ عنّا: سے گرمی دور ہونا (ضد) ___ النجمُ: ستارہ کا غروب ہونا، غائب ہونا۔ ___ على ضالته: کھوئی ہوئی چیز کی جگہ دریافت کرنا اور پانا۔ ___ على الخبير سقطتَ: تم واقف کار کے پاس پہنچے۔ حيثما سَقَطَ لَقَطَ: یہ ضرب المثل عیار شخص کے لئے بیان کی جاتی ہے۔ ___ القومُ إليَّ: لوگ میرے پاس آئے۔ الولدُ من بطن امه: بچہ کا ماں کے پیٹ سے نکلنا۔ سَاقَطَ سِقاطًا و مُسَاقَطَةً ہُ: کو گرانا یا مسلسل گرانا۔ ___ ہُ الحديثَ: باری باری سے بات کرنا۔ أَسْقَطَ ہُ: کو گرانا۔ ___ تِ المرأةُ السِقْطَ: عورت کا ادھورا بچہ گرانا۔ ___ ن من ك: (ن کو ک سے) مجرا کرنا، تفریق کرنا، منفی کرنا۔ اسقط له بالكلام: کو گالی دینا۔ تَسَقَّطَ: کی خطاؤں کو تلاش کرنا۔ ___ الخبرَ: تھوڑی تھوڑی کر کے حاصل کرنا۔ تَسَاقَطَ و اسَّاقَطَ الشيءُ: پے در پے گرنا۔ السُقْط: ناتمام بچہ جو اپنی میعاد سے پہلے گر جائے یا مردہ پیدا ہو۔ السَقْط: بمعنی السُقْط: شبنم یا برف۔ لئیم۔ السَقْطة: زور سے گرنا، لغزش۔ السِقط: بمعنی السُقْط: پرندے کا بازو کہتے ہیں۔ رفع الطائرُ سِقْطَيْهِ: پرندے نے اپنے بازو اٹھائے۔ بادل کا کنارہ جو سطح زمین سے لگا ہوا دکھائی دے، خیمہ کا گوشہ۔ السَقَط جمع أَسْقاط: ہر بے خیر چیز، ردی سامان، فضیحت و شرمندگی۔ الساقط جمع سُقَّاط و سِقَاط م سَاقِطة: لئیم، کمینہ۔ السَاقِطة جمع سَوَاقِط: کمینہ، ناقص العقل، پکنے سے پہلے گر جانے والا پھل۔ السِقاط (جمع ساقط کی) لغزش، پکنے سے پہلے گر جانے والا پھل، پرندہ کا بازو۔ السُقاط و السُقاطة: گری ہوئی چیز۔ السَقُوط: بمعنی ساقط۔ السَقِيط: گری ہوئی برف وغیرہ۔ م سَقِيطة: احمق، ناقص العقل۔ السَقَّاط: بہت گرنے والا۔ بہت تیز تلوار۔ و السَقَطِيّ: ردی سامان بیچنے والا، کباڑی۔ السَقَّاطة: سقاط کا مونث جس کے معنی بہت گرنے والا ہے۔ سَقَّاطة الباب: دروازہ کی بلی۔ المَسْقَط جمع مَسَاقِط: گرنے کی جگہ۔ المَسْقَطة: گرنے کا سبب۔ المَسقِط جمع مَسَاقِط: گرنے کی جگہ، پرندہ کا بازو۔ مَسْقِطُ رأسِ الرجلِ: جائے پیدائش۔ مُسْقِطَةُ الاحبال: بڑی مصیبت۔ الأُمُّ المِسْقَاط: قبل از ولادت بچہ گرانے کی عادت رکھنے والی ماں۔

۲- سَقَطَ ـُ سُقُوطًا و مَسْقَطًا في الكلام: بات میں غلطی کرنا۔ غلط بات کرنا۔ ___ عليه الأمرُ: کو ضائع کرنا۔ ___ في يده: نادم ہونا۔ سُقِطَ في يده: لغزش کرنا، غلطی کرنا، نادم ہونا، حیران ہونا۔ أَسْقَطَ الرجلَ: کے ساتھ وہ کچھ کرنا جس سے وہ غلطی کرے، جھوٹ بولے یا اپنا راز ظاہر کردے کہتے ہیں۔ ما أَسقط في كلمة: اس نے اپنی گفتگو میں غلطی نہیں کی۔ أُسْقِطَ في يده: نادم ہونا۔ السَقْط جمع أسْقاط: لکھنے یا بولنے یا حساب میں غلطی۔

۳- سَاقَطَ سِقاطًا و مُسَاقَطَةً الفرسُ الخيلَ: گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں پر سبقت کرنا۔ ___ الفرسُ العَدْوَ: گھوڑے کا سست رفتار سے دوڑنا۔

○ سَقَطَ ـُ سُقُوطًا و مَسْقَطًا: گرنا، (لڑائی میں) مارا جانا، نیچے گرنا، الٹ کر گرنا، ٹھوکر کھا کر گرنا، پھسل پڑنا۔ (بالوں کا) گرنا۔ على: سے اتفاقاً ملنا یا کو اتفاقاً پانا، کو پانا، کے ہاتھ لگنا (کچھ) ___ الى: کے پاس آنا، پہنچنا۔ ___: زوال یا انحطاط پذیر ہونا، (معیار کا) گرنا، کالعدم ہونا، منسوخ ہونا، رہ جانا، مفقود ہونا۔ من: سے بچ نکلنا۔ من: کی یادداشت سے یا ذہن سے نکل جانا۔ لِيَسْقُطْ، فَلْيَسْقُطْ: مردہ باد۔ سقط به: کسی کو یا کسی چیز کو اتارنا۔ سقط اليهم عنه الله: ان کے پاس اس کی طرف سے وعدہ تھا کہ وہ۔ سقط رأسُهُ في: وہ وہاں پیدا ہوا، اس کی جائے پیدائش وہاں تھی۔ سقط من العُضْوِيّة: کی رکنیت سے خارج ہونا، کا رکن نہ رہنا۔ سقوط من عينه: کے نزدیک اپنی عزت کھو دینا۔ سقط في الإمتحان: امتحان میں فیل ہونا۔ سُقِط

فی یدہ :ہکا بکارہ جانا، حیران وششدر ہونا۔ اسقط ہ فی الامتحان :کوامتحان میں فیل کرنا۔ اسقط ہ (طیارہ کو) مار گرانا۔ اَسْقَطَ (ہ عدد): منہا کرنا، تفریق کرنا۔ اسقط (ہ من) : کو سے خارج کرنا۔ اسقطت :کا بچہ ضائع ہوجانا، کا اسقاط ہونا۔ اسقطہ من الجنسیۃ :کواس کی شہریت سے محروم کرنا۔ اسقط حقہ فی : کسی چیز میں اپنے حق سے محروم ہوجانا، کسی چیز پر اپنے دعویٰ سے دستکش ہوجانا۔ اسقط دعویٰ شکایت کالعدم قرار دینا، شکایت واپس لینا۔ اُسقط فی یدہ : بمعنی سقط فی یدہ تَسَقَّطَ ہ من :سے کچھ آہستہ آہستہ، معلوم کرنا، کے بارے میں سے معلومات اکٹھی کرنا۔ ـــ :ردی اشیاء تلاش کرنا۔ تسقط الاخبار :معلومات اکٹھی کرنا۔ تَسَاقَطَ :گر پڑنا، نیچے آجانا، دھڑام سے گرنا، دفعتاً گرنا۔ (مکان کا) گر جانا، پے در پے یا بتدریج گرنا، (بال) گرنا۔ ـــ اِلی :ایک ایک کر کے تک پہنچنا۔ من :سے گرنا، ٹپکتا رہنا۔ تساقط علی نفسہ : نڈھال ہونا، صحت کا گرنا جواب دینا۔ تَسَاقَطَ حُطَامًا : ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ختم ہونا۔

سَقْط : شبنم، اوس۔ سِقط :حمل کے 8 سے زائد ہفتے بعد ضائع ہوجانے والا بچہ۔ (miscarriedfetus) سَقط و سِقط و سُقط :چقماق سے اڑ کر نکلنے والے شرارے۔ سَقَط جمع اَسْقَاط : بے کار چیز، فضلہ، بیکار گوشت (پھیپھڑے، اوجھڑی وغیرہ، دل گردے کلیجی، ردی چیز، کاٹ کباڑ، ردی مال) سقط المطاع :ردی، ناکارہ مال۔ سَقَطی :کباڑی، چیتھڑے فروش۔ سَقْطۃ جمع سَقَطَات : گرنا، بری طرح گرنا، فروگذاشت غلطی، لغزش۔ سقطات الطباعۃ :طباعت کی غلطیاں۔ کتابت کی غلطیاں۔ سُقُوط : گرنا، ہوائی جہاز کا گر پڑنا یا حادثہ ہونا۔ زوال، انحطاط، صحت کا گرنا، جواب دینا، مشین کا ٹوٹ جانا (حق) کی تفویض) لغزش۔ سقوط الشعر :بالوں کا گرنا۔ سقوط الامطار :بارش۔ سقیط :اولا، ژالہ۔ مَسْقَط و مَسْقِط جمع مَسَاقِط : وہ جگہ جہاں کوئی گرتی ہوئی چیز اترے، آبشار۔ مُسْقَط اُفقی :گراؤنڈ پلان، افقی قطعہ۔ مسقط راسی :سامنے کا ارتفاع، عمودی حصہ۔ مسقط الراس :جائے پیدائش، گھر، وطن۔

مَسْقَط :عمان کی بندرگاہ اور دارالحکومت۔

اسقاط :خاتمہ کرنا، شکست دینا، ہوائی (جہاز کا مار) گرانا، اسقاط (حمل) تفریق، منہائی، کٹوتی۔ الاسقاط من الجنسیۃ: تنسیخ شہریت۔ اسقاط قیمۃ الدینار : دینار کی قیمت کم کرنا، دینار کی قیمت کا گراؤ۔ تساقط :بالوں کا گرنا۔ تساقط الثلوج :برف باری (Snow fall) ساقِط جمع سُقاط : گرا ہوا، گھٹیا، پست، کمینہ، نیچ، ذلیل، شرمناک، بدنام (علاقہ) مشتبہ چال چلن کا، بے عزت، بے وقار، چھوڑا ہوا، بھولا ہوا، مفقود۔ ساقطہ :سکریپ جمع ساقطات :گری ہوئی عورت، طوائف، بیسوا۔ سُقُطراء: سوکوترا۔ (عرب ملک کے جنوب میں ایک جزیرہ)

سقع :ا۔ سَقَعَ ۔سَقْعًاہُ :کے ساتھ برائی سے پیش آنا، کو سخت سست کہنا، تھپڑ مارنا کہتے ہیں۔ ماادری این سقع :میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں دفع ہوگیا۔ اُسْتُقِعَ لونہٗ :کا رنگ متغیر ہونا۔ السُقع جمع اَسْقَاع : زمین کا گوشہ، گھر۔ الاَسْقَع :دشمنوں اور حاسدوں سے دور رہنے والا۔

۲۔ سَقَعَ ۔سَقْعًا الدیکُ :مرغ کا بانگ دینا، ٹکڑوں ٹکڑوں کرنا۔ السِقاع و المِسْقَع :دیکھو الصقاع و المِقْقَع۔

۳۔ السِقَاع :کپڑے کا ٹکڑا جو اوڑھنی کو تیل سے بچائے۔ برقع، وہ چیز جس سے اونٹنی کی ناک باندھی جائے۔ الاَسْقَع جمع اَسَاقِع (ح) :سبز پر اور سفید سر کا چڑیا کے مانند پرندہ جو پانی کے قریب ملتا ہے۔ السَوْقَعَۃ: شوربے میں گوندھی ہوئی روٹی کا بالائی حصہ۔ من الرداء او الخمار او العمامۃ :چادر، دوپٹہ یا پگڑی کی وہ جگہ جو سر کے قریب ہو اور جلد میلی ہوجاتی ہے۔

○ سَقَعَ ۔سَقْعًا ہ / ہ :کو تھپڑ مارنا، بجانا۔ مُسَقَّعَۃ: گوشت اور بینگن سے تیار کیا ہوا کھانا۔

سقف :ا۔ سَقَفَ ۔سَقْفًا البیتَ :گھر پر چھت ڈالنا۔ سَقِفَ ۔سَقَفًا :کبڑا اور لمبا ہونا۔ اَسْقَف سَقْفَاء جمع سُقْف : کبڑا اور لمبا۔ ت الرجلُ :ٹانگ کا دائیں پہلو پر جھکا ہونا۔ سَقَّفَ البیتَ :گھر پر چھت ڈالنا۔ السَقْف من البیت جمع سُقُوف :چھت السَقِیف جمع سُقُف و سُقُف :چھت السَقِیفہ جمع سَقَائِف :چھت پاٹنے کا تختہ یا پتھر، چھتی ہوئی گزرگاہ، غلام گردش، پناہ گاہ، سونے یا چاندی کے پتلے پترے۔ اونٹ کی پسلی۔ ھَدَمَ السفر سقائف للبعیر: سفر نے اونٹ کی پسلیاں توڑ ڈالیں۔ الاَسْقَف :موٹی اور لمبی ہڈیوں والا۔ من الجمال :وہ اونٹ جس پر بال نہ ہوں۔ من الظلمان :ٹیڑھی گردن کا نر شتر مرغ۔ المُسَقَّف (مفع) : لمبا۔

۲۔ سَقِفَ ۔سَقَفًا ... تَسَقَّفَ :بشپ ہونا۔ سَقَّفَ بمعنی سَقَف۔ ہ علیھم :ان پر کسی کو بشپ بنانا۔ ـــ اُسْقِفَ ہُ علیھم : کو لوگوں پر بشپ بنانا۔ الاُسْقُف و الاُسْقُف جمع اَسَاقِفَۃ و اَسَاقِف: بشپ، مطران (یونانی لفظ) الاُسْقُفِیَّۃ: بشپ کا عہدہ، بشپ کی رعیت۔ جسے بشپ کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔

○ سقفُ الحلق : تالو تَسْقِیف :چھت بندی۔ مَسْقُوف : (ب سے) چھتا ہوا، ڈھکا ہوا۔

سقل :ا۔ سَقَلَ ۔سُقُلاً :کو صیقل کرنا۔ سَقِلَ ۔سَقَلاً البعیرُ : اونٹ کے کمر میں دائیں جانب کجی ہونا۔ السُقُل :کمر السَقِل من الرجال :پتلی کمر والا۔ من الخیل : پیٹھ پر کم گوشت والا گھوڑا۔ السِقالۃ و الا سُقالۃ و الصقالۃ عند العامۃ :پاڑ Scaffold مچان۔

۲۔ سَقْلَبَ ہُ : کو پچھاڑنا۔ السَقْلَب : واحد سَقْلَبِی جمع سَقَالِبہ (صَقْلَب بھی کہا جاتا ہے) نئی پود جو یورپ کے ملکوں میں جا کر آباد ہوگئی۔

○ سقلبی جمع سَقَالِبہ :وسطی اور مشرقی یورپ کا رہنے والا۔ (Slav) سلاوی۔

سقم : سَقِمَ ۔وسَقُمَ ۔سُقْمًا و سُقُمًا و سَقَامًا و سَقَامَۃً :بیمار ہونا، کی بیماری کا دراز ہونا۔ سَقِیم جمع سِقَام و سُقَمَاء :بیمار، دیرینہ مریض۔ سَقَّمَ ہٗ :کو بیمار بنا دینا، کرنا، ڈالنا۔ اَسْقَمَ ہٗ : بمعنی سَقَّمَہ۔ الرجلُ :کے گھر والوں کا بیمار ہونا، پر بیماریوں کا ہجوم ہونا۔ السَقَم و السُقْم جمع اَسْقَام و السَقَام: بیماری، مرض۔ السَقِم و السَقِیم : مریض، بیمار۔ کلامٌ سَقِیمٌ :غیر درست کلام۔ مکانٌ سَقِیم : خوفناک جگہ۔ ھو سقیم الصدر علی اخیہ :وہ اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ المِسْقَام :بہت بیمار رہنے والا، اکثر بیمار رہنے والا۔ ارضٌ مَسْقَمَۃٌ :بیماریوں والی زمین، امراض کی آماجگاہ۔

سقن : السَقَنْقُور : دیکھو اِسْقَنْقُور۔

سقی :ا۔ سَقَی ۔سَقْیًا الرجلَ :کو پانی پلانا، پینے کے لئے پانی دینا، کسی کو سقاک اللّٰہ یا سقیًا لک کہنا۔ الثوبُ : کپڑا ارنگنا۔ ہُ اللّٰہُ الغیثَ :اللہ تعالیٰ اس کے لئے بارش بھیجے۔ بطنہٗ :بیماری کی وجہ سے پیٹ میں پانی جمع ہونا۔ سُقِیَ قلبُہٗ عداوۃً :کے دل کا دشمنی سے بھر جانا۔ بطنُہٗ :کے پیٹ میں بیماری کا پانی جمع ہوجانا۔ سَقَّی تَسْقِیَۃً الرجلَ :کو بہت پانی پلانا۔ کو سقیًا لک کہنا۔ الثوبَ :کپڑے کو بار بار رنگ میں ڈبونا۔ ساقَی ہُ :ایک دوسرے کو پلانا۔ ہُ

فی أرضه: کسی کو زمین کی دیکھ بھال کے لئے رکھنا، اس شرط پر کہ اسے غلہ دیا جائے گا۔ اسے شرکۃ المساقاۃ کہتے ہیں: أَسْقَی اسقاءً الرجُلَ: کو پانی پلانا، کو پینے کے لئے پانی دینا، اسے پانی کی جگہ بتانا، اس کے مویشیوں کو پانی دینا یا اس کی زمین کو پانی دینا، اسے سقاك اللّٰہ یا سقیًا لك کہنا۔ و ۔۔ هُ اللّٰهُ الغیثَ: اللہ کا اس کے لئے بارش بھیجنا۔ تَسَقّی تَسَقِّیًا: سیراب ہونا، تر ہونا۔ تَسَقّی الصِبغَ: رنگ پی جانا، جذب کرنا۔ تَسَاقَیا: ایک دوسرے کو پلانا۔ اِستَقَی اِستِقاءً منه: سے پانی وغیرہ مانگنا۔ و ۔ من النهر: نہر سے پانی لینا۔ اِستَسقَی اِستِسقاءً منه: سے پینے کے لئے کچھ طلب کرنا، مانگنا۔ ــ الرجُلُ: قے کرنا، کے پیٹ میں بیماری کا پانی جمع ہونا۔ الرجُلَ: سے سقاك اللّٰہ یا سَقیًا لك: کہنا۔ السَقِی جمع أَسقِیَة: بیماری کی وجہ سے پیٹ میں جمع ہو جانے والا پانی۔ سَقیًا و سُقیًا لفلان: دعاء کے موقع پر کہتے ہیں، اصل میں سقاہ سَقیًا ہے یعنی اللہ اس کو سیراب کرے۔ السِقی جمع أَسقِیَة بمعنی السَقِی: پیٹ میں بیماری کی وجہ سے جمع ہونے والا پانی، سیراب کی ہوئی فصل یا زمین، پانی کا حصہ (کہتے ہیں۔ کم سِقیُ أرضِك: تمہاری زمین کے حصہ کا پانی کس قدر ہے) بادل۔ السِقاء جمع أَسقِیَة و أَسقِیَات و أَسَاقٍ (پانی یا دودھ وغیرہ رکھنے کی) مشک۔ السِقایَة و السَقایَة: پانی پلانے کی جگہ، پانی پلانے کا برتن۔ والسُقایة: پانی جمع کرنے کا حوض یا ٹنکی۔ السَاقِی: جمع سُقاة و ساقون و سُقّاء سُقِیّ (فا) ساقی۔ السَاقِیَة جمع سَوَاقٍ و سَاقِیات: ساقی کا مونث، چھوٹی نہر۔ السُقیا: سقی و اِستسقاء کا اسم۔ السَقِیّ واحد سَقِیَّة: درخت خرما، بردی کا پودا، دریاؤں کے پانی سے سیراب کیا ہوا، بہت بارش برسانے والا بادل۔ السَقّاء م سَقّاءة و سَقّایة: ساقی کا اسم مبالغہ۔ الاِستسقاء: بروئے لغت پانی طلب کرنا اور شرعی اصطلاح میں سخت ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعاء کرنا، اطباء کے نزدیک جسم کی بیماری کا نام ہے۔ المَسقَی (ز): سیرابی کا وقت۔ المَسقَوِیّ (ز): دریا کے پانی سے سیراب کی ہوئی کھیتی۔ (المَظمَاءِیّ: بارانی کھیتی) السقاۃ و المَسقاۃ: پانی پلانے کی جگہ۔

۲- سَقَی ۔ سَقیًا الرجُلَ: پر عیب لگانا، کی غیبت کرنا۔ أَسقَی فلانًا: پر عیب لگانا، کی غیبت کرنا۔

○ سَقّی: آبپاشی، آبیاری، پانی دینا۔ مِسقَی جمع مَساق: آبپاشی کی نہر۔ مُساقاۃ: شجرکاری، ایک ہی نوع کے باغات یا کھیتوں کے پٹہ پر فصل میں حصہ دینے کا ٹھیکہ جو صرف ایک فصل کے لئے ہو۔ (اسلامی قانون)۔ استسقاء: بلودھر، استقاء (ایک بیماری کا نام) صلاۃ الاستسقاء: بارش کے لئے نماز۔ استسقائی: بلودھر سے متعلق ساقیۃ جمع سَوَاق: ہوٹل کی شراب گاہ میں مشروبات پیش کرنے والی Barmaind، چھوٹا دریا، آبپاشی کی ڈگی یا نہر، رہٹ۔

سک: سَكَّ ۔ سَكًّا الباب: دروازہ بند کرنا، دروازے میں لوہے کی بلی لگانا۔ ـــ أُذنیه: کے کانوں کو جڑ سے اکھیڑنا۔ کہتے ہیں: ماسَكَّ سَمعِي مثلُ ذلك الكلام: اس جیسا کلام میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا۔ ــــ سَكَكًا: چھوٹے کانوں والا ہونا۔ اَسَكّ م سَكّاء جمع سُكّ: چھوٹے کانوں والا۔ کُلُّ سَكّاءَ بیوض و کلُّ شرفاءَ وَلُود: ہر چھوٹے کان والی انڈے دیتی ہے اور ہر بڑے کان والی بچے جنتی ہے۔ اِستَكَّ اِستِكاكًا النباتُ: پودے کا گنجان ہونا، گھنا ہونا۔ ــ ت المسامعُ: بہرا ہونا۔ کہتے ہیں: مااستك في مسامعي مِثلُهُ: میرے کانوں میں اس جیسی بات نہیں پڑی۔ ــ البیتُ: دروازے کا شگاف بند ہونا۔ السُكّ: بچھو کا بل، مکڑی کا سوراخ، طبیعت کی کمینگی۔ ــــ جمع سِكاك و سُكوك: تنگ کنواں، تنگ کڑیوں والی زرہ، بند سڑک۔ السَكِّي: کیل۔ السَكَك (مص): بہراپن۔ السَكّاء: تنگ کڑیوں والی زرہ۔ السُكوك: تنگ منہ کا کنواں۔ السُكاكة: چھوٹے کانوں والا۔

۲- سَكَّ ۔ سَكًّا العُملَةَ: سکے ڈھالنا۔ السِكَّة جمع سِكَك: سکہ ڈھالنے کا ڈھانچہ یا مشین۔ السِكّي: دینار۔ السَكّاك: سکے ڈھالنے والا۔

۳- سَكَّ ۔ سَكًّا البئرَ: کنواں کھودنا۔ کہتے ہیں: اینَ تَسُكُّ: کہاں جاتے ہو؟ السَكّ: سیدھی عمارت۔ السِكَّة جمع سِكَك: ہل کا پھل یا پھالی۔ درختوں کی قطار، ہموار راستہ (سِكَّةُ الحدید: ریل کی پٹری)۔ ڈاکخانہ، گلی۔ کہتے ہیں: فلانٌ صعبُ السِكَّة: وہ چین سے نہیں رہتا۔ أصحابُ السِكَك: اہم امور کے لئے بھیجے جانے والے وظیفہ خور، پیغام رساں۔ السِكاك: کہتے ہیں: ضربوا بیوتهم سِكاكًا: انہوں نے اپنے مکان ایک قطار میں بنائے۔ السِكّي: قاصد، ڈاکیا۔ السَكّاكة: مسافر لوگ۔

۴- سَكَّ ۔ سَكًّا النعامُ مافي بطنه: شترمرغ کا پتلی بیٹ کرنا۔

۵- السُكّ: ایک قسم کی خوشبو۔ السُكاك: کرہ ہوائی، بلند فضا کی ہوا، تیر میں پر کی جگہ۔ السُكاكة: بلند فضا کی ہوا، خود رائے۔

۶- سَكْسَكَ: کمزور ہونا، بہادر ہونا۔ تَسَكسَكَ الیه: سے عاجزی کرنا۔

○ سَكَّ ۔ سَكًّا الباب: دروازہ کو چٹخنی لگانا، مقفل کرنا۔ سَكَّ الروبیة: روپیہ (کا سکہ) ڈھالنا۔ سَكَّ ۔ سَكَكًا و اِستَكَّ: بہرہ ہونا یا ہو جانا۔ سِكّة: پہلو کی گلی، چھوٹی گلی۔ سِكّة الحدید اور السِكّة الحدیدة: ریل روڈ۔ دار السِكّة: ٹکسال، دار الضرب، (mint)۔ سكة زراعية: پگڈنڈی۔ سَكّان جمع سَكّانات: پتوار Rudder اَسَكّ م سَكّاء جمع سُكّ: بہرا۔ مَسكوكة جمع مَسكوكات: سکہ (coin) نالی کا سراخ۔ علم المسكوكات: علم مسکوکات Numismatics سِكارة جمع سَكائر: سگریٹ۔ سكارين: سکرین (مصنوعی چینی)

سكب: ۱- سَكَبَ ۔ سَكبًا و تَسكابًا الماءَ ونحوه: پانی وغیرہ گرانا۔ سُكوبًا و انسَكَبَ الماءُ: پانی کا گرنا، بہنا۔ تَساكَبَ الدمعُ: آنسو گرنا، بہنا۔ السَكبُ: لگاتار بارش۔ ــ من الخیلِ: تیز رفتار گھوڑا۔ ماءٌ سَكبٌ: بہتا ہوا پانی۔ رجلٌ سَكبٌ: چست چالاک آدمی۔ السَكبَة: سر کی ٹوپی۔ السَاكِب والسكوبُ و السكیب: بہنے والا۔ الأُسكوب: بہنے والا لگاتار جھڑی۔ ــ من البرق: زمین کی طرف کوندنے والی بجلی۔ الأُسكوبة والإسكابة: مشک کے شگاف میں دینے کی لکڑی۔ المَسكَبَة جمع مَساكِب: بہانے یا بہنے کی جگہ۔

۲- السَكبُ: ایک قسم کا لباس، تانبا یا سیسہ۔ أمرٌ سَكبٌ: لازمی کام۔ السَكَب: تانبا یا سیسہ۔ الأُسكوب: لوہار، تالے بنانے والا، دھات کا کام کرنے والا، درخت خرما کی قطار۔ ــ والإسكاب: موچی۔ المَسكَبَة جمع مَساكِب: نرسری، پودگھر، پودکیاری۔ السِكباج (ط): گوشت اور سرکہ سے تیار کردہ سالن (فارسی لفظ)

○ مَسكَبٌ جمع مَساكِب: کٹھالی۔ مَسكوبة: کٹھالی۔

سكت: ۱- سَكَتَ ۔ سَكتًا و سُكوتًا و سُكاتًا و ساكوتةً: خاموش ہونا، مرجانا۔ ــ الغضبُ: غصہ ٹھنڈا ہونا۔ ــ الحرُّ: گرمی کا تیز ہونا اور ہوا کا رکنا۔ الحركةُ: حرکت کا ٹھہرنا۔ سُكِتَ: کو سکتہ لاحق ہونا۔

مُسْکُوت: سکتہ میں مبتلا۔ سَکَّتَ ہٗ: کو خاموش کرنا، چپ کرانا۔ سَاکَتَ ہٗ فَسَکَتَہٗ: خاموش رہنے میں کسی سے مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔ أَسْکَتَ: خاموش ہو جانا۔ ہٗ: کو خاموش کرنا، چپ کرانا۔ السَّکْت: بہت خاموش رہنے والا۔ السِّکِّیت: کم گو مگر جب بولے تو اچھی باتیں کرے۔ السُّکْتَة: سکت کا اسم، بچہ کو چپ کرانے کی لوری۔ السُّکْتَة: سکت کا اسم، سکتہ کی بیماری (طب) السُّکْتَة: بچوں کو چپ کرانے کی لوری۔ السُّکَات: بیماری جو بولنے میں مانع ہو۔ (طب)۔ من الجواب مُسْکِت: جواب کہتے ہیں۔ رماہٗ بسُکاتہ و صُماتِہ: اس نے اس کو خاموش کر دیا۔ من الحیّات: بے خبری میں ڈس لینے والا سانپ کہتے ہیں۔ ھو علی سُکات الأمر: وہ کام ختم کرنے کے قریب ہے۔ السُّکاتَة من الجواب: مسکت جواب۔ السَّکُوت و السَّاکُوتُ و السَّاکُوتَة و السِّکِّیت و السُّکَیت: بہت خاموش رہنے والا۔ السُّکَیت: بہت خاموش رہنے والا، گھوڑ دوڑ کا آخری گھوڑا۔ المُسَکِّت: جوئے کے کھیل کا آخری تیر۔

۲۔ أَسْکَتَ عن الشیء: سے اعراض کرنا۔

۳۔ السُّکْتَة: برتن کا بچا ہوا۔ أَسْکَاتُ الشیء: چیز کا بقیہ۔ چیز کے باقی ماندہ حصے۔ القومِ: قوم کے اوباش لوگ۔

○ سَکَتَ ۔ ُ سَکْتًا و سَکُوتًا و سُکَاتًا (عن): پر خاموشی سے گزر جانا، کا جواب نہ دینا۔ سُکِتَ: کو سکتہ ہو جانا۔ أُسْکِتَ ہٗ: کو چھپانا، بتانے سے انکار کرنا۔ سکتة قلبیة: دل کی حرکت بند ہونا۔ علی السُّکُت: خاموشی سے۔

سکر: ا۔ سَکَرَ ۔ ُ سَکْرًا الإناءَ: برتن بھرنا۔ سَکِرَ ۔ َ سَکَرًا الحوضُ: حوض کا بھر جانا۔

۲۔ سَکَرَ ۔ ُ سُکُورًا و سَکَرَانًا الریحُ: ہوا کا رک جانا، ٹھہرنا۔ الحرُّ: گرمی کا کم ہونا۔ السَّاکِرُ م سَاکِرَة (فا): ساکن۔ کہتے ہیں: لیلٌ سَاکِرٌ: وہ رات جس میں ہوا ٹھہری ہوئی ہو۔

۳۔ سَکَرَ ۔ ُ سَکْرًا النھرَ: دریا کے لئے بند بنانا۔ ۔ الباب: دروازہ بند کرنا۔ ۔ سُکُورًا و سَکَرَانًا بصرہٗ: نگاہ دھندلی ہونا۔ سَکِرَ ۔ َ سَکَرًا و سَکْرًا و سُکْرًا و سُکُرًا و سَکَرَانًا من الشراب: شراب سے مدہوش ہونا۔ سَکِرٌ و سَکْرَان م سَکِرَةٌ و سَکْرَی و سَکْرَانَة جمع سَکْرَی و سَکَارَی و سُکَارَی مدھوش ۔۔ سَکَرًا الرجلُ علیہ: کا کسی پر غضب ناک ہونا۔ سُکِرَ بصرہٗ: کی نگاہ دھندلی ہونا۔ سَکَّرَ الباب: دروازہ بند کرنا۔ ہٗ: کا گلا گھونٹنا۔ سُکِّرَ بصرہٗ: کی نگاہ دھندلی ہونا۔ أَسْکَرَہٗ الشرابُ: کو شراب کا مدہوش کرنا، مست کرنا۔ تَسَاکَرَ: مستی ظاہر کرنا، نشہ آور چیز استعمال کرنا۔ السُّکْر (مص): مستی، نشہ۔ السُّکْر جمع سُکُور: سَکْرَ النھر (دریا بند کرنا) کا اسم دریا کا بند، پشتہ۔ السَّکَر: شراب، ہر نشہ آور چیز، سرکہ۔ السَّکَرَة (ن): ایک پودا۔ سَکْرَة الموت او الھم جمع سَکَرَات: موت یا غم کی شدت اور غشی۔ السَّکَّار: نشہ آور اشیاء کا بنانے اور بیچنے والا۔ السِّکِّیرِ و السَّکُّور المِسْکِیر: بہت نشہ کرنے والا، عادی شرابی۔ السُّکَّرَة: (عام لوگوں کی زبان میں) لکڑی کا آلہ جس سے دروازہ لکڑی کی چابی سے بند کیا جاتا ہے۔

۴۔ سَکَّرَ الشیءُ: شکر کی طرح ہو جانا۔ السُّکَّر: شکر، چینی۔

۵۔ السُّکُرُّجَة و السُّکُرُّجَة: تشتری، رکابی۔

○ سَکَّرَ ہٗ: میں چینی ڈالنا، پر شکر چھڑکنا کو چینی کے قوام میں رکھنا، پاگنا، چینی کے ساتھ محفوظ رکھنا، کا مربہ ڈالنا۔ سکاکر: مٹھائیاں، کیک، پیسٹریاں، شیرینیاں، ٹافیاں، کھانڈ کی مٹھائیاں۔ سُکَّر: چینی سُکَّر الثمار: پھلوں کی چینی۔ سُکَّر الشعیر: شعیرہ کی چینی۔ malt sugar سُکَّر العنب: انگور کی چینی۔ grape sugar سُکَّر القَصَب: گنے کی چینی۔ سُکَّر اللَّبن: دودھ چینی۔ سُکَّر النبات: Rock candy , suger candy قَصَب السکر: گنا مرض السکر: ذیابیطس Diabetes سُکَّری: چینی کا، چینی والا، میٹھا، سکرین Saccharine سکریات مٹھائیاں، ٹافیاں، کھانڈ کی مٹھائی۔ مرض البول السکری: ذیابیطس سُکَّرِیَّة: شکردانی Suger bowl مُسَکَّرَات: مٹھائیاں، کینڈی، کنفکشنری۔ سِکُرْتَاة: انشورنس، بیمہ۔ سکرتاریة: سکرٹریٹ، سکرٹری شپ۔ سِکْرتو: روئی کی ردی cotton waste سکرتیر: سکرٹری۔ سکرتیر عام: سکرٹری جنرل۔

سِکْرتِیرِیة: سکرٹریٹ (Secretariat)

سُکَّرِین: سکرین Saccharin تَسَکْسَكَ: غلامانہ انداز سے پیش آنا، غلامانہ رویہ اختیار کرنا۔

تَسَکْسُك: غلامی Servility سَکْسُونِی: سیکسن Saxonian , Saxon

سَکْسُونیا: سکسونیا Saxonia

سکع: سَکَعَ و سَکِعَ ۔ سَکْعًا و سُکُعًا: آوارہ پھرنا کہتے ہیں۔ ما ادری این سکع: (میں نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا، عوام کی زبان میں سکع فلانٌ: اس وقت کہتے ہیں جب وہ لنگڑا کر چلے۔ تَسَکَّعَ الظلمةَ: اندھیرے میں بھٹکتے پھرنا۔ فی أمرہ او مسیرہ: بے راہ چلنا، مدت تک باطل میں رہنا، عوام کی زبان میں جب کوئی کسی کی چاپلوسی کرے یا اس کے سامنے فروتنی کا مظاہرہ کرے تو کہتے ہیں۔ تَسَکَّعَ لہ رجلٌ سُکَعٌ: متحیّر آدمی۔ السَّاکِع (فا) و السُّکَع: اجنبی آدمی۔ المَسْکَعَة: ایسی بات جس میں راہ نہ سوجھے۔ ارضٌ مُسَکِّعَة: بھٹکانے والی بے راہ زمین۔

○ طَرَدَہٗ الی حیث التَّسَکُّع: کو اندھیرے میں دھکیل دینا، کو غیر یقینی انجام سے دو چار ہونے" دینا۔

سَکَّاف: موچی، کفش دوز۔ سِکافة: کفش دوزی، جوتے سازی کا پیشہ۔ اسکاف، اِسکافی جمع اَسَاکِفة: کفش دوز۔

سکف: ا۔ سَکَفَ ۔ ُ سَکْفًا الباب: دروازہ کی چوکھٹ بنانا۔ تَسَکَّفَ الباب: دروازہ کی چوکھٹ پر قدم رکھنا۔ السَّاکِف (فا): دروازہ کی چوکھٹ کی اوپر کی لکڑی جو دہلیز کے مقابل ہوتی ہے۔ الأُسْکُفّ من العین: پلکوں کے اگنے کی جگہ، آنکھ کا نچلا پپوٹا کہتے ہیں۔ وقفت الدمعةُ علی اسکف عینہ: آنسو پلکوں پر رک گیا۔ الأُسْکُفَّة و الأُسْکُوفة: چوکھٹ، دہلیز۔

۲۔ أُسْکُفَ: موچی ہونا۔ الأُسْکُف و الاسکاف و الأُسْکُوف و السَّکَّاف و السَّیْکَف: موچی۔ السِّکافة: موچی کا پیشہ۔

○ سَاکِف: سردل، لنٹل Lintel

سکم: سَکَمَ ۔ ُ سَکْمًا: کمزوری سے قریب قریب قدم رکھنا۔ سَیْکَم: کمزوری کی وجہ سے قریب قریب قدم رکھنے والا۔ الاِسْکِیم: راہب کا کپڑا یا اس کا سر پر ڈالنے کا کپڑا۔

سکن: ا۔ سَکَنَ ۔ ُ سُکُونًا: ٹھہر جانا، سکون پذیر ہونا۔ ۔ عنہ الوجعُ: کا درد دور ہو جانا، جاتا رہنا۔ الحرفُ: حرف کا ساکن ہونا۔ سَکَّنَ المتحرِّكَ: متحرک کو ساکن کرنا۔ الحرف: حرف کو جزم دینا۔ أَسْکَنَ الفقرُ فلانًا: محتاجگی کا کسی کو بے حرکت کرنا۔ السُّکُون: بے حرکتی۔ السُّکَّان من السفینة جمع سُکَّانات: پتوار۔

۲۔ سَکَنَ ۔ ُ سُکُونًا الیہ: پر خوش ہونا، راحت پانا۔

تَسَكَّنَ: آرام لینا قرار پانا۔ السَکَن: ہر وہ چیز جس سے آرام ملے، دل لگے رحمت، برکت۔ السَکِینَۃ: وقار، ہیبت، اطمینان۔ السِکِّینَۃ: اطمینان، وقار۔

۳۔ سَکَنَ - سَکَناً و سُکنی الدارَ و فی الدار: گھر میں رہنا، اقامت کرنا۔ ساکن جمع سُکّان و سَاکنون: (گھر میں) رہنے والا، اقامت کرنے والا۔ سَاکَنَ ذُنی دار واحدۃ: کے ساتھ ایک گھر میں رہنا۔ أسْکَنَ ہ الدارَ: کو گھر میں رکھنا، کی (گھر میں) بود و باش کرانا، کو آباد کرنا۔ تَسَاکنوا فی الدار: گھر میں مل کر رہنا۔ السَکَن: گھر، گھر والے۔ السَکَن: سَکَنَ کا اسم، رہنے کی جگہ، آگ۔ اسکان کا واحد بمعنی غذا خوراک۔ السَکِنَۃ جمع سَکِنَات: سر کے قیام کی جگہ کہتے ہیں۔ ترکتھم، علی سکناتھم: میں نے ان کو اپنی حالت میں چھوڑا۔ السُکْنَی: سکن کا اسم، رہنے کی جگہ، رہائش کی جگہ۔ المَسْکِن والمَسْکَن جمع مَسَاکِن: گھر، مکان، منزل۔

۴۔ سَکَنَ - سُکُوناً و سَکُنَ - سُکُونَۃ: مسکین ہونا۔ أسْکَنَ الرجلُ: مسکین ہونا۔ ہ: کو مسکین بنانا۔ تَسَکَّنَ و تَمَسْکَنَ: مسکین ہونا۔ اِسْتَکَانَ اسْتِکَانَۃً و اسْتَکَنَ: ذلیل و عاجز ہونا۔ المَسْکَنَۃ: غربت، افلاس محتاجگی، ذلت، کمزوری۔ المِسْکِین جمع مِسْکِینُون و مَسَاکِین م مِسْکِینَۃ و مِسْکِین: کچھ نہ رکھنے والا، عیاں کے لئے بقدر کفالت نہ رکھنے والا، ذلیل، مغلوب۔

۵۔ السُکَین (ح) ہلکا پھلکا تیز رو گدھا۔ السُکَیْنَۃ (ج): گدھی۔ السِکِّین جمع سَکَاکِین و السِکِّینَۃ: چھری، چھرا۔ السَکّان: چھریاں بنانے والا۔

○ سَکَنِی خاکستری۔ فی حرکاتہ و سکناتہ: اپنے تمام اعمال میں، ہر صورت حال میں۔ سکون الطائر: سنجیدگی، تشویشناکی، متانت۔ سَکّان: چھری چاقو والا (Cutler)۔ مَحَلُّ السُکْنَی: رہائش گاہ۔ سَکَاکِینی: چھری چاقو والا (Cutler)۔ تسکین: غصہ ٹھنڈا کرنا، سکون دینا۔ اسکان: بسانا، رہائش فراہم کرنا، آباد کرنا۔ السُکّان: آبادی Population ساکن الجنان: بہشتی، مرنے والا۔ کثیر السُکّان: گنجان آباد۔ لایُحرِکُ سَاکِناً: وہ ہلتا نہیں، سرکتا نہیں، وہ اپنی انگلی نیچے نہیں کرتا، جنبش نہیں کرتا، سرد مہر رہتا ہے۔ حرّك ساکنہ: کو متحرک کرنا، مضطرب کرنا، جگانا، بیدار کرنا، برانگیختہ کرنا۔ مَسْکُون: آباد، جس میں رہائش ہو، جہاں بھوتوں کا بسیرا ہو۔ (haunted) المَسْکُونۃ: دنیا، آباد دنیا، ربع مسکون۔

سکنجبین: سکنجبی۔ سِکَنْدِینَافِیَا و سِکَنْدِنَاوَہ: سکینڈے نیویا Scandinavia (ایک ملک کا نام)

سکند نافی: سکینڈ نیوی: ملک سکینڈے نیویا کا۔

سکو: السّکُولاستیك یونانی فلسفہ پر مبنی دینی تعلیم۔

سل: ۱۔ سَلَّ - سَلاً الشیءَ من الشیء: ایک چیز میں سے دوسری چیز آہستہ آہستہ نکالنا۔ - سِلاً: گرے ہوئے دانتوں والا ہونا۔

سَلّ: گرے ہوئے دانتوں والا۔ سَلّہ: گرے ہوئے دانتوں والی۔ أسَلَّ اِسْلالاً الشیءَ: کو چپکے سے چرانا۔ تَسَلَّلَ و انْسَلَّ من الزحام: بھیڑ میں سے چپکے سے کھسک جانا کہتے ہیں۔ اِنْسَلَّ قیدُ الفرس من یدہ: اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی رسی نکل گئی۔ سَلَلْتُ السیف من الغِمْد فانسَلَّ: میں نے میان سے تلوار نکالی تو وہ نکل آئی۔ اِسْتَلَّ الشیءَ من الشیءِ: ایک چیز کو دوسری چیز سے آہستہ آہستہ نکالنا۔ استَلَّ فلانٌ بکذا: فلاں شخص ایک چیز چھپا کر لے گیا۔ السالّ (فا) جمع سُلاّن و سَرَالّ: وادی میں پانی بہنے کی تنگ جگہ، چور۔ الأسَلّ: چور۔ السَلّۃ جمع سِلاَل: خفیہ چوری، حوض کا نقص کہتے ہیں۔ فرسٌ سریعُ السلّۃ: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ أتیناھم عند السَلّۃ: سین کی زبر کیساتھ مرۃ کے معنی ہیں اور زیر کے ساتھ نوع کے معنی ہیں) ہم ان کے پاس تلواریں سونتنے کے موقع پر آئے۔ السلاَل: چور السلیل: کھینچا ہوا سونتا ہوا۔ (کہتے ہیں۔ سیفٌ سلیلٌ: سونتی ہوئی تلوار) وادی میں پانی بہنے کی جگہ، بیٹا (کہتے ہیں۔ ھو سلیل الاکارم یعنی وہ بزرگوں کی اولاد ہے) خالص شراب، حرام مغز، کوہان۔ السَلِیلۃ: بٹی، پیٹھ کے گوشت کا لمبا ٹکڑا، (ح) لمبی مچھلی۔ السُلالۃ: کسی شی سے نکالی ہوئی چیز، نسل، اولاد (کہتے ہیں۔ ھو سُلالۃ طیبۃٌ و من سُلالۃ طیبۃ: وہ اچھی نسل کا اچھا بیٹا ہے)، خلاصہ۔ المِسَلّۃ جمع مِسَلاّت و مَسَال: بڑی سوئی، سوا۔ مِسَلّۃُ فرعون: سوئی کی شکل کا طویل مربع ستون جو فراعنہ کی یادگار ہے۔ (obelisk)

۲۔ سَلّ: لاغر ہونا، سل کی بیماری میں مبتلا ہو کر لاغر ہونا۔ مَسْلُولٌ: سل کی بیماری میں مبتلا لاغر شخص۔ أسَلَّ اِسْلالاً اللّٰہُ فلاناً: اللہ کا فلاں کو سل کی بیماری میں مبتلا کرنا۔ السِلّ و السُلّ و سُلاَل: لاغری، پھیپھڑے کی بیماری۔ سِل (طب): السَلّۃ جمع سِلاَل: سل کی بیماری۔

۳۔ السلّ جمع سِلال: عطر فروش کا ڈبہ، عوام کے نزدیک وہ ٹوکری جو درخت کی شاخوں سے بنائی گئی ہو۔ السَلّۃ جمع سِلال: ٹوکری السَلاّل: ٹوکریاں بنانے یا بیچنے والا۔

۴۔ سَلْسَلَ سَلْسَلَۃً الماءَ: پانی کو پستی کی طرف بہانا کہتے ہیں۔ ما سَلْسَلَ طعاماً: اس سے کھانا نہیں کھایا۔ تَسَلْسَلَ الماءُ: پانی کا نشیبی زمین میں بہنا۔ السَلْسَل والسَلْسَال والسُلاَسِل: میٹھا پانی، حلق سے باآسانی اتر جانے والی شراب۔ ۵۔ سَلْسَلَ سَلْسَلَۃً الشیءَ بالشیء: ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا، ملانا۔ سلسل فلاناً الی فلان: کو کسی کی طرف نسبت میں جوڑنا۔ کسی کے دوسرے کسی سے سلسلہ نسب کی اصل کا پتہ لگانا۔ السَلْسَلَۃ: کوہان کا لمبا ٹکڑا۔ السِلْسِلۃ جمع سَلاسِل: لوہے وغیرہ کی زنجیر، کوہان کا لمبا ٹکڑا۔ سَلاسِلُ الکتاب: کتاب کی سطریں۔ البرق: بادل کی چوڑائی میں لمبائی میں چمکنے والی بجلی۔ شَعْرٌ مُسَلْسَل: گھنگریالے بال۔ المُتَسَلْسِلۃ (ع ح): مسلسل اعداد جن میں ایک عدد سے پہلے ایک بڑھانے سے وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ جیسے ۱، ۳، ۷، ۱۵، ۳۱ (۱+۱ = ۲ اور ۲= ۲+ ۳=۳+۳، ۶+۱=۷ اسی طرح ۷+۷= ۱۴، ۱۴+۱= ۱۵ اور ۱۵+۱۵= ۳۰، ۳۰+۱=۳۱)

۶۔ تَسَلْسَلَ فرندُ السیف: تلوار کے جوہر کا چمکنا۔ المُسَلْسَل من الثیاب: دھاری دار کپڑا۔ سیفٌ مُسَلْسَلٌ: چمکنے والی تلوار، سیف لامع۔

۷۔ تَسَلْسَلَ الثوبُ: کپڑے کا پہننے سے پتلا ہو جانا۔ المُسَلْسَل والمُتَسَلْسِل من الثیاب: ردی، بوسیدہ کپڑا۔

○ اِنْسَلَّ الی: میں سرایت کرنا (سیاسی طور پر بھی) فوجی دستوں کا محاذ کے پار نکل جانا (عسکری)

سَلّ: ٹوکری۔ السِل التدرنی: سل، دق، ٹی بی السِل الرِئَوِی: پھیپھڑوں کی سل Pulmonary tuberculosis سَلّۃ جمع سِلال: ٹوکری سَلّۃ المُھْمَلاَت: ردی کی ٹوکری۔ کُرۃُ السلّۃ: باسکٹ بال۔ سُلالی: کنبہ کا، خاندانی۔

سلأ: سَلأَ - سَلأً السمنَ: گھی صاف کرنا۔ - السِمْسِمَ: تلوں سے تیل نکالنا۔ - الجذعَ: جذع پر سے کانٹے چھیلنا۔ اِسْتَلأَ السمنَ: گھی صاف کرنا۔ السِلاء جمع أسْلِئَۃ: سلأ کا اسم، گرم کر کے صاف کیا ہوا گھی۔ السُلاّءُ (سُلاّءَۃ کا واحد) کھجور کے درخت کے

کانٹے ، درخت خرما کے کانٹوں کی مانند تیر کا
پھل۔(ح) ایک پرندہ۔
۲۔ سَلَأَ ۔ سَلْأً مِئۃَ سوطٍ: کو سو کوڑے مارنا۔
سلب: سَلَبَ ۔ سُلْبًا و سَلَبًا الشیءَ: (دوسرے
سے) چیز زبردستی چھیننا۔ ــــ واسْتَلَبَہُ ثوبَہ:
فریب سے کسی کے کپڑے چھیننا۔ سَلَّبَ و أَسْلَبَ
تِ الناقۃ او المرأۃ: اونٹنی یا عورت کے بچے کا مر جانا یا
ادھورا بچہ گرانا۔ سلیب و سَلُوب جمع سُلُب و
سَلائب و سالِبٌ و سَلَبٌ و مُسْلِب و مُسَلِّبٌ
اونٹنی یا عورت جس کا بچہ مر گیا ہو یا ادھورا گرا ہو۔
السَّلَب جمع أسْلاب: چھینی ہوئی چیز کہتے ہیں۔
أخذ سَلَبَ القتیل: اس نے مقتول کا سامان لے
لیا۔ السَّلِیب جمع سَلْبٰی: عقل پامال کھویا ہوا۔
السَّلّاب: بہت چھیننے والا۔ السَّلّابۃ والسَّلَبُوت:
(مذکر و مونث) لٹیرا، چور۔
۲۔ سَلَبَ ۔ سُلْبًا و سَلَبًا القصبۃَ او الشجرۃَ:
(نرسل، گنا، درخت) چھیلنا۔ ــــ السیفَ: تلوار ننگی
کرنا۔ صفت سالِب جمع سُلّاب و سالِبُون م سالِبۃ
جمع سالبات و سوالب۔ اَسْلَبَ تِ الشجرۃُ:
درخت کا پھل یا پتے گرنا۔ اِنْسَلَبَ: بہت تیز چلنا
(عام طور پر اونٹنی کے لئے مخصوص ہے)۔ السَّلَب:
تیز رفتاری، سبک رفتاری۔ فرسٌ سَلِبُ القوائم:
پتلی ٹانگوں والا گھوڑا۔ السَّلَب: درخت کا ریشہ یا چھلکا
جس سے رسیاں بٹی جاتی ہیں۔ ــــ من القصبۃ: نرسل
کا چھلکا۔ سَلَبُ الذبیحۃ: ذبح شدہ جانور کا چمڑا،
پائے اور پیٹ۔ السَّلِب: ہلکا۔ شجرۃ سَلِیب جمع
سُلُب: وہ درخت جس کے پتے جھاڑ دیئے گئے ہوں
اور شاخیں چھانٹ دی گئی ہوں۔ السُّلْبۃ: برہنگی،
عریانی۔ السُّلّاب: درخت سے رسیوں کے لئے
ریشے نکالنے والا۔
۳۔ سَلِبَ ۔ سَلَبًا: ماتمی لباس پہننا۔ السِّلاب جمع
سُلُب: سیاہ ماتمی لباس۔ کہتے ہیں۔ لبست الثکلی
السِّلاب: ماں نے جس کا بچہ مر گیا غم کا لباس پہن لیا۔
۴۔ السَّلِب: طویل، لمبا۔ الأُسْلوب جمع اسالیب
طریقہ، راستہ، روش، انداز، (کہنے اور کام کرنے کا)
ناک کا اونچا ہونا۔ کہتے ہیں۔ انفہ فی اسلوب
یعنی تکبر سے اس کی ناک دائیں بائیں نہیں ہوتی۔
السَّلِبِیَّۃ (ن): پیرو میں اگنے والا ایک پھول۔
○ سَلَبَ ۔ سَلْبًا ہ من / ہ ہ: سے کوئی چیز چھیننا۔ ــــ
ہ/ہ من: کو سے محروم کرنا۔ ہ ہ: سے کوئی چیز لوٹ
لینا۔ ــــ ہ: (شکست خوردہ فوج) کو اسلحہ اور کپڑوں
وغیرہ سے محروم کر دینا۔ ــــ ہ ہ: سے کوئی چیز روک
لینا، کو کوئی چیز نہ دینا۔ سَلِبَ ۔ سَلَبًا: ماتمی لباس
پہننا، ماتمی حالت میں ہونا۔ تَسَلَّبَ: ماتمی حالت
میں ہونا۔ سَلْبٌ: لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ، لوٹ مار، نفی،
ابطال۔ علامۃُ السَّلْب: نفی، تفریق کی علامت۔
سلبی: انکاری، منفی، انفعال۔ الدفاع السلبی یا
المقاومۃ السلبیۃ: مقاومت مجہول۔ سَلْبِیَّۃ:
منفیت، منفی رویہ۔ سَلَب جمع أسْلاب: لوٹ کا مال،
مال غنیمت، رسیاں، ذبح شدہ جانور کی کھال پائے اور
پیٹ۔ سَلّاب: ڈاکو، لٹیرا۔ سلیب: چوری شدہ، لیا
ہوا، چھینا ہوا۔ اسلوب جمع اسالیب: طریقہ،
راستہ، طریقہ کار، انداز اسلوب، طور، سٹائل (مصنف
کے) سٹائل کی خصوصیت، اسلوب کتابی، ادبی
سٹائل۔ سالِب: منفی جمع سوالب: نیگیٹو (فوٹو)
مسلوب: ناکام۔
سلت: ۱۔ سَلَتَ ۔ سَلْتًا المِعیٰ: آنتوں کو ہاتھ سے
نکالنا۔ الشَّعرَ او الرأسَ: بال یا سر مونڈنا۔ الشیءَ:
چیز کاٹنا۔ ــــ تِ المرأۃُ الخضابَ عن یدھا:
عورت کا اپنے ہاتھ کی مہندی کو چھڑا ڈالنا۔ بسلحہ
بیٹ کرنا۔ واسْتَلَتَ القصعۃَ: پیالے کو انگلیوں سے
پونچھنا۔ اِنْسَلَتَ: چپکے سے بے خبری میں کھسک جانا۔
سَلْتۃ: کہتے ہیں۔ ذھب منی فلتۃ و سَلْتۃ: وہ مجھ
پر سبقت لے گیا اور میرے ہاتھ سے نکل گیا۔
السُّلاتۃ: دور کی ہوئی یا نکالی ہوئی چیز۔ پیالے کے
اطراف سے انگلیوں سے پونچھی ہوئی چیز۔ الأسْلَت
م سَلْتاء جمع سُلْت: جڑ سے کٹی ہوئی ناک والا۔
اِمرأۃ سَلْتاء: مہندی نہ لگانے والی عورت۔
۲۔ سَلَتَ ۔ سَلْتًا ہُ: کو مارنا، کوڑے مارنا۔ جیسے سَلَتَہُ
مائۃ سوط: اس نے اسے سو کوڑے مارے۔
۳۔ السُّلْت: بے چھلکے والا جو، السُّلْت او الشَّیْلَم
(ن): گندم کی طرح کا ایک پودا اس کے آٹے سے
روٹیاں پکائی جاتی ہیں، زردی مائل ہے اس کی کاشت
یورپ کے انتہائی سرد علاقوں تک محدود ہے۔
سلج: ۱۔ سَلَجَ ۔ سُلُوجاتِ الابل: اونٹ کا سلج گھاس
کھانے سے پیٹ چلنا۔ سَلْجًا و سَلَجَانًا الفصیل
الناقۃ: اونٹنی سے علیحدہ کیے گئے بچے کا اونٹنی کا دودھ
پینا۔ سَلِجَ ۔ سَلَجًا و سَلَجَانًا ت الابل: اونٹ
کا سلج گھاس کھانے سے پیٹ چلنا۔ السُّلَجَۃ: لقمہ
نگلنا۔ تَسَلَّجَ الطعامَ: کھانا آسانی سے نگلنا۔ واسْتَلَجَ
الشرابَ: شراب غٹ غٹ پی جانا۔ السُّلَّج جمع
سَلالیج (ن): ایک گھاس جو پیٹ چلاتی ہے۔
السَّلِیج من الأکل: لذیذ عمدہ حلق سے جلد اتر جانے
والی غذا۔ السِّلْجان: حلق
۲۔ السَّلْج: عطاء، بخشش۔ السُّلْجَۃ جمع سُلَج (ح):
سمندری سیپی
۳۔ السَّلَجْلَج والسُّلَجْلِج من الطعام: عمدہ لذیذ کھانا۔
۴۔ السُّلْجَم جمع سَلاجِم: گھنی داڑھی، لمبے جبڑوں
والا سر، بہت پانی والا پرانا کنواں (ن): شلغم۔ ــــ
والسُّلاجِم جمع سَلاجِم: لمبا گھوڑا یا تیر یا آدمی،
بہت بوڑھا اونٹ۔
سلح: ۱۔ سَلَحَ ۔ سَلْحًا: بیٹ کرنا، لید کرنا (پرندوں اور
چوپایوں کے لئے مخصوص ہے۔ انسان کے لئے مجازاً
آتا ہے) سَلَّحَ و أَسْلَحَ ہُ: کو مسلح کرنا۔ السَّلْح جمع
سُلُوح و سُلْحان: پتلا پاخانہ۔ السُّلاح:
پتلا پاخانہ، اسہال۔
۲۔ سَلَّحَ ہُ: کو اسلحہ سے لیس کرنا۔ ہُ السیفَ و بالسیف:
کو تلوار باندھنا۔ تَسَلَّحَ: اسلحہ سے لیس ہونا۔ مسلح ہونا۔
السّالِح (فا): مسلح، ہتھیار بند۔ السِّلاح جمع أسْلِحَۃ
و سُلُح و سُلْحان: ہتھیار (مذکر و مونث) السلاحکار
جمع سلاحکاریۃ: ہتھیار بند (فارسی لفظ سلاح و دار
سے مرکب) المَسْلَحَۃ جمع مَسالِح: اسلحہ خانہ،
میگزین، پہرہ کی جگہ، مسلح جماعت (اع) فوج کا اگلا
مورچہ۔
۳۔ السُّلَّح: شیرہ جس سے گھی کی مشک کو ملا جاتا ہے۔
السُّلَح جمع سِلْحان و السُّلَحۃ (ح): چکور کا بچہ۔
السَّلَح: گڑھوں میں بارش کا پانی۔ السِّلِّیح: قاصد،
پیغمبر (سریانی لفظ ہے)
۴۔ اِسْلَحَبَّ الطریقُ: راستہ کا واضح، لمبا اور سیدھا ہونا۔
مُسْلَحِب: واضح، لمبا اور سیدھا راستہ۔
۵۔ السُّلَحْفاۃ و السِّلَحْفاۃ و السُّلَحْفا و السُّلَحْفیٰ
و السُّلَحْفِیَّۃ جمع سَلاحِف (ح): کچھوا، بحری
کچھوے کے مذکر کو علیم کہتے ہیں۔ عام لوگ اسے
زلحفۃ کہتے ہیں۔
○ سِلاح جمع أسْلِحَۃ: ہتھیار، مسلح افواج کی ایک شاخ
(کے طور پر) سروس، زرہ بکتر، ہل کی پھال، سٹیل کی
سنی۔ سلاح الطیران: ہوائی فوج۔ فضائیہ
Air force سلاح الفرسان رسالہ
(Cavalry) شاک السلاح: سر سے پاؤں تک
مسلح۔ سلم سلاحَہُ: ہتھیار ڈالنا، اطاعت قبول
کرنا، مغلوب ہونا۔ سباق التسلح: اسلحہ کی دوڑ
Arms race القوات المسلحۃ: مسلح افواج
اِسْمنت مُسَلَّح: ریت، سیمنٹ اور بجری سے تیار

کروہ مسالہ۔ Reinforced concrete
خرسانہ مُسَلَّحَۃ: ایضاً رُجاج مُسَلَّح: تاردار
شیشہ Wired glass

سلخ: ا۔ سَلَخَ ُ سَلْخاً الخروفَ: بکری کے بچے کی
کھال اتارنا۔ ـتِ المرأۃُ درعَھا: عورت کا اپنا کرتا
اتارنا۔ ـتِ الحیَّۃُ: سانپ کا اپنی کینچلی اتارنا، کینچلی
سے نکلنا۔ اللّٰہُ النہارَ من اللیل: اللہ کا دن کو رات
سے علیحدہ کرنا۔ ـ الشہرُ: مہینہ کا گزرنا۔ ـ الرجلُ
الشہرَ: آدمی کا مہینہ کو آخر تک گزارنا۔ سَلَخَ الحرُّ
جلدہٗ: گرمی کا کسی کی کھال کو اتار دینا۔ تَسَلَّخَ
جلدُہٗ: کھال کا اترنا۔ انْسَلَخَ من ثیابہ: ننگا ہونا۔
الشہرُ من سنتہ: مہینہ کا گزرنا۔ النہارُ من اللیل
دن کا رات سے علیحدہ ہونا۔ ـتِ الحیَّۃُ من قشرھا:
سانپ کا کینچلی سے نکلنا۔ سَلْخُ الشہرِ: مہینہ کا آخر۔
وسَلْخَۃُ الحیّۃِ: سانپ کی کینچلی۔ السِّلْخُ: جانور کی
اتاری ہوئی کھال۔ سِلْخُ الحیَّۃ: سانپ کی کینچلی۔
السَّلَخُ: تکلہ پر چڑھا ہوا دھاگا۔ السَّالِخ: اونٹ کی
خارش، سیاہ سانپ کی صفت کیونکہ یہ ہر سال اپنی کینچلی
اتارتا ہے۔ سانپنی کو اَسْوَدَۃ: کہتے ہیں۔ اسکی صفت
سَالِخۃ: نہیں آتی اور صفت میں سالخ کا تثنیہ نہیں
آتا بلکہ کہا جاتا ہے۔ اَسْوَدٌ سَالِخٌ و اَسْوَدَانِ
سَالِخ اور جمع میں کہتے اَسَاوِدُ سالخۃ و سَوَالِخ و
سُلَّخ و سُلْخَۃ الأَسْلَخ: گنجا۔ السلیخ: کھال
کھینچا ہوا کہتے ہیں۔ شَیٌ سَلِیْخٌ مَلِیْخٌ: یعنی چیز
بے ذائقہ ہے۔ السَّلَاخَۃُ فی الشَّیءِ: چیز کا
بے مزہ ہونا۔ السَّلِیْخَۃ: بیٹا السَّلَّاخ: بہت کھال
کھینچنے والا۔ المَسْلَخ: وہ جگہ جہاں کھالیں اتاری
جاتی ہیں۔ آج کل مذبحہ یا بوچڑ خانہ کے معنی میں
مستعمل ہے۔ المِسْلاخ: سانپ کی کینچلی۔ کچا چمڑا۔
ـ من النخل: وہ کھجور کا درخت جس کی کچی کھجوریں
گر جائیں۔ مُنْسَلَخُ الشہر: مہینہ کا آخر۔ الانْسِلاخ:
شیر کا ایک حالت سے دوسری میں منتقل ہونا۔

۲۔ اِسْلَخَّ اسْلِخَاخاً الرجلُ: لیٹنا۔

۳۔ الأَسْلَخ: تیز سرخ رنگ کا۔ السَّلِیْخَۃ: بان کا تیل
جسے ابھی بہتر اور خوش بودار نہ بنایا گیا ہو۔ (من شجر
الرمث و نحوہ: وہ درخت جس میں چرنے کو کچھ نہ
ہو بلکہ محض خشک لکڑی بن کر رہ گیا ہو۔) زمین جسے پانی
نہ دیا جاتا ہو۔

○ سَلْخ: علیحدہ کرنا، کھال اتارنا، ادھیڑنا، کھینچنا۔ سانپ
کی کینچلی، مہینے کا آخر۔ خشب سَلِخ: نرم لکڑی۔
سَلَاخ جمع سَلَّاخۃ و سَلَّاخون: بوچڑ۔ سلیخ:
اتری ہوئی ادھیڑی ہوئی، کھینچی ہوئی (کھال) بے مزہ،
بے لطف، بے کیف (کھانا)۔ سَلِیْخَۃ: (چین کا)
دارچینی کا درخت۔ سَلْخانۃ جمع سَلْخانات: بوچڑ
خانہ۔ مَسْلَخ جمع مَسَالِخ: بوچڑ خانہ۔ مُنْسَلَخ:
مہینہ کا آخر۔

سلر: السِلَّوْر (ح): ایک قسم کی مچھلی جس پر چھلکے نہیں
ہوتے (یونانی لفظ)

سلس: ا۔ سَلِسَ ـ سَلَسَاتِ النخلۃ: درخت خرما کی
جڑوں کا گر جانا۔ صفت سَلِس: اگر ایسا عادتاً ہوتا ہو تو
صفت مِسلاس ہوگی۔ ـتِ الخشبۃ: لکڑی کا
بوسیدہ ہونا۔ سُلِسَ سُلاساً و سَلْسًا و سَلَسًا:
کی عقل جاتی رہنا۔ صفت مَسْلُوسٌ اُسْلِسَ ـتِ
النخلۃُ: بمعنی سَلِسَتْ۔

۲۔ سَلِسَ ـ سَلَسًا و سَلَاسَۃً و سُلُوسًا: نرم و مطیع
ہونا صفت سَلِس و سالِس: کہتے ہیں۔ سَلِسَ
بحقی: یعنی اس نے آسانی سے مجھے میرا حق دیدیا۔
اَسْلَسَ قِیادَہٗ: کو آسان، نرم و مطیع بنا دیا۔ تَسَلَّسَ
الشیءُ: لٹکنا۔ السَّلَس (مص): سہولت، نرمی،
تابعداری، پیشاب کا نہ رکنا۔ السَّلِس: آسان، نرم،
تابعدار کہتے ہیں۔ ھو سَلِسُ البول: وہ پیشاب روک
نہیں سکتا۔ شرابٌ سَلِسٌ: حلق سے نرمی سے اتر
جانے والی شراب۔ مِسمارٌ سَلِسٌ: ہلنے والی میخ، کیل۔

۳۔ سَلَّسَ الحلیَ: زیور کو جواہرات سے مرصع کرنا۔
السَّلْس جمع سُلُوس: کان کی بالی، دھاگا، جس
میں موتی پروئے جائیں۔

۴۔ السَّلْسَبِیل جمع سَلاسِب و سَلاسِیب م
سَلْسَبِیلۃ جمع سَلْسَبِیلات: نرم، شراب، میٹھا پانی،
خوشگوار حلق سے اتر جانے والا پانی۔ بہشت کے ایک
چشمہ کا نام۔

○ سَلِسَ ـ سَلَسًا و سَلَاسَۃً: مطیع ہونا، حکم کی تعمیل
کرنے والا ہونا، فرمانبردار ہونا، نرم ہونا، رواں ہونا،
خوش اسلوب ہونا۔ اَسْلَسَ ہ / ھ: کو مطیع کرنا،
تابع دار بنانا، زیر کرنا، مغلوب کرنا، قابو میں کرنا۔ ھ:
کو آسان بنانا، نرم بنانا، رواں اور خوش اسلوب بنانا۔
سَلِس: مطیع، خم پذیر، تعمیل حکم کرنے والا، فرمانبردار،
لچکدار، نرم، خوش اسلوب۔ سَلِس القیاد: مطیع خم
پذیر، حکم کی تعمیل کرنے والا، فرمانبردار۔ سلاسۃ: خم
پذیری، اطاعت، تعمیل حکم، فرمانبرداری (نیز سلاسۃ
القیاد): نرمی روانی، خوش اسلوبی۔ اَسْلَس: زیادہ
مطیع، زیادہ خم پذیر، زیادہ فرمانبردار، زیادہ لچکدار،
زیادہ نرم، زیادہ رواں، رواں تر، خوش اسلوب۔

سَلْسَلَ ہ ب: کو سے باہم ملانا، جوڑنا، کے ساتھ
سلسلہ قائم کرنا، کے ساتھ پھنسانا، جوڑنا، متحد
کرنا، کنکٹ کرنا۔ سلسل ہ: کو بیڑی پہنانا، ہتھکڑی
لگانا۔ الماءَ فی: میں پانی ڈالنا۔ سَلْسَلَہٗ الی: کے
شجرہ نسب کا پتہ لگانا۔ تَسَلْسَل: بہنا، ٹپکنا، رسنا، ایک
سلسلہ بنانا، جاری رہنا، باہم مربوط ہونا۔ سَلْسَل:
ٹھنڈا تازہ پانی۔ سِلْسِلۃ: (مضامین، مقالات وغیرہ)
کا سلسلہ سِلْسِلۃ الجبال: پہاڑوں کا سلسلہ۔
سلسلۃ الظھر: پیٹھ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی۔ السلسلۃ
الفقریۃ: ایضاً۔ سلسلۃ الاکاذیب: جھوٹ کی
عمارت Fabric of lies۔ سلسلۃ النسب:
سلسلہ نسب، شجرہ نسب، نسب۔ تَسَلْسُل: ترتیب،
سلسلہ، یکے بعد دیگرے آتا یا ہونا۔ بالتسلسل: بغیر
رکاوٹ، لگاتار، پے درپے، مسلسل۔ نَشَرَہٗ بتسلسل:
کو سلسلہ وار شائع کرنا کو قسطوں میں شائع کرنا۔
مُسَلْسَل: بندھا ہوا، مسلسل، غیر منقطع۔ ردِّ فعلٍ
مُسَلْسَل: جاری ردِ عمل Chain reaction
المَرْأۃُ المُسَلْسَلۃ: اندرآمیدہ، ستاروں کا جھرمٹ،
مجمع نجوم Andromeda مُتَسَلْسِلٌ: جاری
(گنتی)۔

سلط: ا۔ سَلِطَ ـ وسَلُطَ ـ سَلاطَۃً و سُلُوطَۃً:
زبان دراز ہونا۔ السَّلِط: زبان دراز، لمبی زبان۔
سخت السلیط: خوش بیان، تیز زبان آدمی (جب
مرد کی صفت ہو تو مدح کے معنی ہیں اور عورت کی صفت
ہو تو اسکی مذمت کے معنی دیتا ہے) ہر چیز میں تیز،
سخت۔ لِسانٌ سلیط: لمبی زبان۔ رجُلٌ سَلِیط:
زبان دراز۔ امرأۃ سلیطۃ: زبان دراز، بدزبان
عورت۔ امراۃٌ سَلْطانۃٌ و سُلْطانۃُ اللسان: تیز
زبان دراز عورت۔

۲۔ سَلَّطَہٗ علیہ: کو پر غلبہ دینا، اختیار دینا، قابض کرنا۔
تَسَلَّطَ علیہ: پر غالب آنا، قابض ہونا، قادر ہونا۔
السُّلْطۃ: حکومت، طاقت، اختیار۔ السلیط:
زیتون کا عمدہ تیل، ہر قسم کے دانہ کا تیل۔
السُّلْطان جمع سَلاطِین: حجت۔ آپ کہتے ہیں۔
لہ سلطانٌ مبین: وہ صاف اور کھلی دلیل رکھتا ہے۔
کہتے ہیں۔ یہ سلیط سے مشتق ہے۔ اور سلیط
اس چیز کو کہتے ہیں جس سے روشنی کی جائے اس لئے
زیتون کو سلیط کا نام دیا گیا، قدرت، اقتدار، بادشاہ۔
التسلُّطِیَّۃ: سامراجی، توسیع پسندی کی سیاست، آج
کل اسے سیاسۃ توسّعِیّۃ: Policy of
expansim, Expansionist policy کہتے

ہیں،اور سیاسة التوسع بھی کہاجاتا ہے۔ سُلْطَة جمع سُلطات : طاقت،اقتدار،قوت،اختیار،اتھارٹی، حکمرانی،تسلط،اثرونفوذ،مطلق العنانی۔دائرہ اختیار۔ السلطة الأبوية :پدرانہ اختیار،قبیلہ یاخاندان کی سربراہی۔ السلطة الروحية :روحانی طاقت۔ السلطة التشريعية :قانون سازی کااختیار۔ سلطة عسكرية :فوجی اختیار۔ السلطة القضائية :عدالتی اختیار۔ السلطة التنفيذية :قوت نافذہ،عاملہ۔

۳۔ السَّلِط جمع سِلَاط : نیزہ کی انی جس کے وسط میں ابھارنہ ہو۔ السُّلُط :لمبی ٹانگیں۔ السِّلْطَة :جمع سِلَط وسِلَاط : لمباباریک تیر،گھاس اوربھوسہ رکھنے کا کپڑا۔ السَّلَاطة (ط) :سلاد Salad۔ المِسْلَاط جمع مَسَالِط : چابی کادندانہ۔ رجلٌ مَسْلُوطُ اللحية :ہلکی داڑھی والا۔

۴۔ اِسْلَنْطَحَ الرجُلُ :منہ یاپیٹھ کے بل گرنا۔ ـ الوادی : وادی کاوسیع اورفراخ ہونا۔ الشيءُ :چیز کالمبی اور چوڑی ہونا۔ السُّلْطُح :چکناپہاڑ۔ السَّلَاطِح : چوڑی،چوڑا۔ السَّلَنْطَح و المُسْلَنْطِح :کشادہ فضا۔

۵۔ اِسْلَنْطَعَ الرجُلُ :چت لیٹنا۔ السُّلْطُوع :چکنا پہاڑ۔ السَّلَنْطَع :پاگل کی طرح گفتگو میں جہالت کرنے یاانکنے والا۔ ــ والسِّلِنْطَاع :لمبا،درازقد آدمی۔

۶۔ سَلْطَنَ سَلْطَنَةً ہُ : کوسلطان بنانا۔ تَسَلْطَنَ : سلطان بننا۔

سلع ۱۔ سَلَعَ -سَلْعًا الرأسَ :سرپھاڑنا۔

سَلِعَ -سَلَعًا قدمُهُ :کے پاؤں کاپھٹنا۔

سَلَّعَ ہُ :کوپھاڑنا۔ اَسْلَعَ :کے جسم میں زخم ہونا،جسم میں زخم والاہونا۔ تَسَلَّعَ عقبُهُ :کی ایڑی کاپھٹنا۔ اِنْسَلَعَ :پھٹنا۔ السَّلْع جمع سُلُوع : (واحد سَلْعة) پاؤں کی پھٹن۔ والسِّلْع فی الجبل جمع أَسْلَاع وسُلُوع :پہاڑ کی دراڑ۔ السَّلْعَة والسَّلَعَة جمع سَلَعَات و سِلَاع :جلدکوپھاڑدینے والازخم۔ الأسْلَع م سَلْعَاء جمع سُلْع :پھٹے پاؤں والا۔ المِسْلَع : گائڈ(راستہ بتانے والا) المَسْلُوع : پھٹی جلدوالا،جسم پرپھوڑے والا۔

۲۔ سَلَعَ -سَلْعًا جلدَهُ بالنار : کھال کوآگ سے جلا کرداغ دارکرنا۔ سَلِعَ -سَلَعًا الرجُلُ :برص کی بیماری میں مبتلاہونا۔برص والاہونا۔ السَّلَع :جلدپر آگ کے داغ۔ الاسْلَع م سَلْعَاءجمع سُلْع :برص کی بیماری والا،جسم پرجلنے کے نشانوں والا۔

۳۔ سَلَّعَ ہُ :پرایلوالگانا۔ السَّلَع : ایلواکی ایک قسم۔ السُّوَلَع :کڑواایلوا۔ کہتے ہیں۔ هو امرُّ من السولع :وہ ایلوے سے زیادہ کڑوا ہے۔ المُسَلَّع : وہ چیزجس پرایلوادرخت کی ٹہنیاں لٹکائی گئی ہوں۔

۴۔ السَّلْع والسِّلْع :مثل،ہم عمر،ہجولی کہتے ہیں۔ هذا سِلْعُ ذاك :یہ اس جیسا ہے۔ غلامان سلعان : دونوں ہم عمرلڑکے اوراسی طرح۔ غلمانٌ أسلاع : ہم عمرلڑکے۔ السِّلْعَة جمع سِلَع : سامان،تجارت کا مال۔ ــ والسُّلْعَة والسَّلْعَة والسِّلَعَة (ح) : جونک،پھوڑا،غدود۔ الاسْلَع م سَلْعَاء جمع سُلْع : کبڑا۔ السَّلِيعة : طبیعت کہتے ہیں۔ انه لكريم السليعة :وہ سخی طبیعت والا ہے۔ سُمٌّ مُسَلَّع : بہت تیز زہر۔

۵۔ السِّلْعَام :فراخ حلق والا،بڑے پیٹ والا،لمبی ناک والا(ح) بھیڑیا۔

۶۔ سَلْعَنَ فی عدوه :بہت تیز دوڑنا۔

○ سَلْطَنَة : سلطنت Sultanate

سلطان : قوت،طاقت،زور،حکم،فرمانروائی،تسلط،اختیار، اتھارٹی، جواز (کے لئے)(سلطان (مطلق) حاکم (جمع سلاطین) ما انزل (الله) به من سُلطان : لاحاصل، بے بنیاد، خود مختارانہ۔ من مانہ فیصلہ۔ سلطانة :سلطانہ سلطان کامونث۔ سلطانی :سلطان کا،سلطان شاہی۔ طریق سلطانی : شاہی ہائی وے۔ سلطانيه : پیالہ،کاسہ۔

سَلِعَ -سَلَعًا :درزپڑنا،تڑخ دارہونا،دراڑپڑنا۔ اِنْسَعَلَ :پھٹنا،ٹوٹ کرکھل جانا۔ سَلْع جمع سُلُوع : درز،دراڑ،شگاف،افتراق۔ سِلْعَة جمع سِلَع :چیز سامان تجارت،تجارتی مال۔

سلغ ۱۔ سَلَغَ -سَلْغًا رأسَهُ :کاسرکچانا۔ ـ سُلُوغَاتِ البقرةُ او الشاةُ :گائے یابکری کاکچلیاں نکالنا صفت سالغ۔ الأسْلَغ :گہراسرخ،برص کامریض، کمینہ، لئیم۔ وـ من اللحم :کچاگوشت۔

۲۔ سَلْغَفَ ہُ : کونگلنا۔

سلف ۱۔ سَلَفَ -سَلْفًا الأرضَ :زمین کوکاشت کے لئے سہاگے سے برابر کرنا۔ سَالَفَ ہُ فی الأمر : سے کسی معاملہ میں برابری کرنا۔ وـ ہُ فی الارض : زمین پرکسی کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اَسْلَفَ الأرضَ : زمین کو زراعت کے لئے سہاگے سے ہموار کرنا۔ ارضٌ سَلِفَة : کم درختوں والی زمین۔ السُّلْفَة: سہاگے سے ہموارشدہ زمین۔ المِسْلَفَة(ن) : سہاگہ، میڑا،ہینگا،سراون۔

۲۔ سَلَفَ -سَلْفًا المزادةَ :مشک پرتیل لگانا۔ السلف جمع سُلُوف وأَسْلُف : چمڑے کاتھیلا،توشہ دان۔ السِّلْف جمع أَسْلَاف : چمڑا،کھال۔ السَّلِف جمع اَسْلَاف :چمڑا،کھال۔ السُّلْفَة :موزوں کاباریک چمڑے کااستر۔

۳۔ سَلَفَ -سَلَفًا و سُلُوفًا :گزرجانا،آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔آپ کہتے ہیں۔ سلف له عملٌ صالحٌ: وہ عمل صالح کرچکا ہے۔ سَلَفَ القوم :وہ لوگوں سے آگے بڑھ گیا،ان پرسبقت حاصل کی۔ سَلَّفَ الشيءَ :کوپیشگی دینا۔ الضيف :مہمان کے سامنے ناشتہ لانا۔ الرجُلُ :ناشتہ کھانا۔ سَالَفَ الجملُ : اونٹ کاآگے بڑھنا۔ تَسَلَّفَ الرجُلُ :آدمی کا ناشتہ،کھانا۔ السَّلَف :عمل صالح،چھوڑاہواسود۔ و جمع أسلاف : آباؤواجداد۔ مَذَاهِبُ السلفِ: متقدمین کے طریق عمل۔ رجلٌ سَلِفٌ جمع اَسْلَاف: آگے جانے والا۔ السُّلْفَة جمع سُلَف : ناشتہ، متقدمین کا گروہ، گزری ہوئی جماعت کہتے ہیں۔ جاؤوا سُلْفَةً سُلْفَةً : وہ یکے بعددیگرآئے۔ السُّلَاف جمع سُلَافات :نچوڑے سے پہلے بہہ جانے والاانگورکارس جوبہترین شراب ہوتی ہے۔ سُلَافُ العسكر :فوج کا ہراول دستہ۔ مقدمة الجيش۔ السُّلَافَة ج سُلَافات: بمعنی سُلَاف۔ سُلَافة كل شيء عصرتَهُ :ہرنچوڑی ہوئی چیز کااول۔ السَّالِف (فا) جمع سَلَف و سُلَّاف : ماضی،گزشتہ،گزراہوامتقدم آپ کہتے ہیں۔ كان ذلك في سالفِ الأيام : یہ گزشتہ دنوں میں ہوا۔ السَّالِفَة جمع سَوَالِف گزری ہوئی،گردن کے اگلے حصہ کاپہلو جوکان کی بالی کے پاس ہوتا ہے۔ سالفةُ الفرسِ :گھوڑے کی گردن کاسامنے کاحصہ۔ السَّلُوف من الابل جمع سَلَف : گھاٹ پرجاتے ہوئے سب سے آگے رہنے والااونٹ۔ ــ من الخيل :تیز روگھوڑا۔ سهمٌ سَلُوفٌ :لمباتیر۔ السَّلِيف جمع سُلُوف : آگے ہونے والا،جماعت متقدمین۔ المُسْلِف :تقریبا پینتالیس سالہ عورت۔

۴۔ سَلَّفَ ہُ مالاً :کو(کچھ رقم)قرض دینا۔ اَسْلَفَ ہُ مالاً: کو(کچھ رقم)قرض دینا۔ ــ فی الشيء :بیع سلم کرنا۔ تَسَلَّفَ و اِسْتَلَفَ المالَ (کچھ) قرض لینا۔ اسْتَسْلَفَ المال :کچھ قرض لینا۔ السَّلَف: بے سودکاقرض،قرض حسنہ۔

۵۔ تَسَالَفَ الرجلان :آپس میں ہم زلف ہونا۔ سِلفان :ایک دوسرے کے ہم زلف۔ سِلْفُ الرجل جمع

أسْلاف: ہم زلف۔ السِّلف جمع أسْلاف: ہم زلف۔ الاسْلُوفَة: سسرال کا تعلق، شادی کے ذریعے رشتہ داری۔ دامادی۔ بينهم اُسْلُوفة: ان کے درمیان رشتہ داری ہے۔

۶۔ السُّلَف جمع سِلْفان و سُلْفان (ح): چکور کا چوزہ۔

○ سَلَّفَ ہ: کو ادھار دینا قرض دینا (ہ کچھ) مُسَلِّف ہ: کو ادھار دینا، قرض دینا (ہ کچھ) سَلَّفْنا (القول): ہم پہلے کہہ چلے ہیں، ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ کما أسْلَفْنا: جیسے ہم پہلے بیان کر آتے ہیں، کہہ چکے ہیں۔ تَسَلَّفَ: (ہ کچھ) ادھار لینا، قرض لینا (من سے)۔ سِلْف جمع اسلاف: بہنوئی۔ سِلْفه: سالی۔ سَلَف و اسلاف: پیشرو، باپ دادا، آباؤ اجداد۔ سَلَف: پیشگی ادائیگی، پیشگی، بے سود قرضہ، قرض حسنہ۔ سلفاً: پیشگی، پہلے ہی سے، قبل۔ سلفية جمع سلفيات: قرض حسنہ، پیشگی رقم۔ السَّلَفِية: مصر میں ایک اسلامی، اصلاحی تحریک، جس کی بنیاد محمد عبدہ نے رکھی (۱۹۰۵-۱۸۴۹) سُلْفه جمع سُلَف: قرض، پیشگی رقم، جوتوں کا اندر کا استر، اندرونی تلا۔ سُلاف: بہترین شراب۔ مُسَلِّفَة: سہاگہ۔ تسليف: کریڈٹ، اڈوانس۔ سعرُ التَّسْلِيف: شرح سود۔ بنك التسليف: کریڈٹ بینک۔ سالِفاً: پہلے، پہلے زمانہ میں۔ سَوالِف الاحداث: گزشتہ واقعات۔ سالِف الذكر: مذکورہ بالا۔

سُلفات: سلفیٹ Sulfate

سلق: ا۔ سَلَقَ - سَلْقاً البيض او البقل: انڈے یا سبزی کو پانی میں جوش دینا۔ ابالنا۔ ہُ بالسوط: کو کوڑوں سے مار مار کر کھال ادھیڑنا۔ المزادة: مشک یا توشہ دان پر تیل لگانا۔ اللحمَ عن العظم: ہڈی پر سے گوشت چھیلنا۔ السِّلْقَةُ جمع سِلْق و سِلَق (ح): بھیڑیے کی مادہ۔ الشي بالماء الحار: گرم پانی سے کسی چیز کے بال اتارنا۔ الدابةَ الراكبُ: جانور کا سوار کی ران کو اندر کی جانب سے چھیل دینا۔ البردُ النباتَ: پودوں کو پالا کا مارنا، جلانا۔ ت القدمُ فی الطريق: قدموں کا راستہ پر نقش بنانا۔ أسْلَقَ الرجلُ: آدمی کا بھیڑیے کی مادہ کا شکار کرنا۔ انْسَلَقَ اللسانُ: زبان کا چھل جانا۔ السَّلْق و السَّلَق: زخم کا نشان۔ السِّلْق (ن): چقندر۔ جمع سُلْقان و سِلْقان (ح): بھیڑیا۔ السُّلاق: زبان کی جڑ میں نکلنے والی پھنسیاں، دانتوں کی جڑوں کی خراش و چھیلن، پلکوں کی سرخی موٹائی اور زخم۔ السُّلاقة: دواؤں کا جوشاندہ۔ السَّلائق: راستہ پر قدموں اور ٹاپوں کے نشانات و آثار۔ السَّلِيق جمع سُلُق: چھوٹے چھوٹے گرے ہوئے درخت۔ السَّلِيقة: ابلی ہوئی سبزی۔ السَّلَق (ح): تیز رفتار اونٹنی۔

۲۔ سَلَقَ - سَلْقاً ہُ بالكلام: کو بات سے ایذا دینا۔ سَلَقَهُ بألسنةٍ حِدادٍ: کو بہت ایذا دینا، تلخ زبان سے طعنے دینا۔ ہُ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ العُودَ فی العُرْوَة: کسی چیز کے دستہ میں لکڑی لگانا (کسی چیز کو لکڑی کا دستہ لگانا) أسْلَقَ العودَ فی العروة: کسی چیز کے دستہ میں لکڑی لگانا۔ سَلْقَى ہُ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ السَّلْقَة: زبان دراز، فاحشہ عورت۔ السَّالِقَةُ من النساء جمع سَوالِق: مصیبت کے وقت اونچی آواز میں رونے اور اپنے چہرہ پر تھپڑ مارنے والی عورت۔ السَّلاق: بدزبانی۔ السَّلَّاق: اسم مبالغہ۔ خطيب سَلَّاق و مِسْلَق و مِسلاق: فصیح و بلیغ خطیب۔

۳۔ سَلَقَ - سَلْقاً الرجلَ: کو چت گرا دینا آپ کہتے ہیں۔ أخَذْتُهُ فَسَلَقْتُهُ لِقفاه: میں نے اسے پکڑ کر چت گرا دیا۔ تَسَلَّقَ: چت سونا۔ علی فراشه: درد یا غم سے بستر پر بے چین و بے قرار ہونا۔ سَلْقَيْتُهُ سِلْقاءً فاسْلَنْقَى اِسلِنقاءً واسْلَنْقَى اسْلِنْقاءً: میں نے اسے پیٹھ کے بل گرایا تو وہ چت سو گیا۔ (یہ افعال فَعْلَى و افتعلى و افعنلى کے وزن پر ہیں اور یہ رباعی کے ملحقات کے اوزان ہیں)

۴۔ سَلَقَ - سَلْقاً الرجلُ: دیوار پر چڑھنا۔ تَسَلَّقَ الجدارَ: دیوار پر چڑھنا۔ السَّلُوقِيَّة: جہاز کے کپتان کے بیٹھنے کی جگہ۔ السُّلَّاق: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صعود کی عید۔

۵۔ سَلِقَ السَّلِيقَةَ وعليها: سلیقہ پر پیدا کیا جانا۔ السَّلِيقة جمع سَلائِق: طبیعت۔ السَّلِيقِيَّة: سلیقہ کی طرف منسوب کہتے ہیں۔ فلانٌ يتكلم بالسليقه: یعنی فلاں شخص سیکھنے سے نہیں بلکہ اپنی طبیعت سے بولتا ہے۔

۶۔ السَّلَق جمع أسْلاق و سُلْقان و سِلْقان: ہموار عمدہ زمین، نشیبی مٹی، کشادہ راستہ۔ السِّلْق جمع سُلقان و سِلقان: پانی بہنے کا راستہ۔ السِّلْقَة (ح): ٹڈی جو انڈے دے چکی ہو۔ السَّلِيق ع سُلُق: چھتے کی لمبائی میں شہد کی مقدار۔ سَلِيقُ الطريق: راستہ کا پہلو۔ السَّلُوقِيّ و السَّلاقِيّ من الكلاب: ایک قسم کا شکاری کتا، تازی کتا۔ السَّلُوقِيَّة: سَلُوقِي کا مونث۔ من الدروع: یمن میں ایک بستی سلوق نامی کی طرف منسوب زرہ۔

○ سَلَقَ - سَلْقاه: کی کھال کوڑے سے چیرنا، پھاڑنا۔ -- ہ: کو گرم پانی سے علیحدہ کرنا ہ: کو ابالنا، پانی میں جوش دینا، ابلتے پانی میں پکانا۔ -- ہ: (سخت گرمی کا) پودوں کو جلا دینا ہ بلسانه: کو اپنی زبان سے ایذا پہنچانا۔ تَسَلَّقَ ہ: پر چڑھنا، کا چھلکا، خول، پوست یا پرت اتارنا۔ السَّلاق: رفع مسح سلاقة: شدید سخت زبان، بدزبانی۔ سليقه جمع سلائق پیدائشی، جبلی خلقی مزاج، افتاد طبع، جبلت، حیوانی عقل۔ سَلْقون وسلاقون: سندور، شنگرف۔ سَلُوقی: شکاری کتا۔ مَسْلُوق: پکایا ہوا، ابالا ہوا گوشت، انڈہ، سبزی۔ مَسْلُوقة جمع مَسالِيق: يخني النباتات المُتَسَلِّقَة: بیلیں (Creepers)

سلك: ا۔ سَلَكَ - سُلْكاً و سُلُوكاً المكانَ: جگہ میں داخل ہونا۔ الطريقَ: راستہ پر چلنا۔ الشيءَ فی الشيء: کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا جس طرح دھاگا سوئی میں داخل کیا جاتا ہے۔ ہُ المكانَ وسلكه فيه: کو کسی جگہ داخل کرنا۔ سَلَكَ ہُ المكانَ وفيه و عليه: کو کسی جگہ میں داخل کرنا۔ الغزلَ: چرخے پر سوت لپیٹنا۔ أسْلَكَ الشيءَ فی الشيء: کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا، ڈالنا، جیسے دھاگا سوئی میں ڈالا جاتا ہے۔ ہُ المكانَ و فيه و عليه: کو کسی جگہ میں داخل کرنا۔ انْسَلَكَ فی الشيء: کسی چیز میں داخل ہونا۔ السِّلْك جمع سُلُوك و أسْلاك: (دھاگے کی لڑی) السلك الدبلوماسي: تمام غیر ملکی سفیر۔ السلك الكهربائي: بجلی کا محکمہ، کہتے ہیں۔ دخل السلك العسكري: وہ فوج میں چلا گیا۔ اللاسلكي: وائرلیس بے تار برقی۔ السِّلْكة: جمع سِلَك و جمع الجمع أسْلاك و سُلُوك: بھلائی کے کام کا دھاگا۔ السُّلْكَى: نیزہ کی سیدھی ضرب کہتے ہیں۔ امرهم سُلْكَى: ان کا کام ایک ہی طریقہ پر ہے۔ المَسْلَك جمع مَسالِك: راستہ المَسْلَكَة: کپڑے کے کنارہ سے پھاڑا ہوا ٹکڑا۔ المُسْلَكَة: چرخہ۔

۲۔ السُّلَك م سُلَكَة جمع سِلْكان (ح): بھٹ تیتر یا چکور کا چوزہ۔ المُسَلَّك: نحیف، پتلا، نازک۔

○ سِلْك جمع أسْلاك: دھاگا، ڈوری، رسی، تنی، تار (موسیقی کے آلات کا تار) ریل، تنظیم، جسم، پیشہ، پیشہ ورانہ شعبہ، کور (Corps) سلكُ الارض یا السِّلْك الأرض: زمینی تار Ground wire اسلاك بحرية: سمندری کیبل۔ السلك الحراري: بلب کا تار، ریڈیو ٹیوب کا تار۔ السلك المتحكم:

(ریڈیو ٹیوب کا) گرڈ Grid (رجال) السلك السیاسی: ڈپلومیٹک کور۔ سلك الشُرطة: پولس السلك الشائك: خاردار تار۔ سلك الانصهار الواقی: فیوز Fuse السلك التعلیمی: تدریسی پیشہ، اساتذہ۔ سلك القضاء: عدلیہ نظام عدالت، ملک کے تمام جج (judi cature , judiciary) السلك المقاوم: ریسسٹر Resister (بجلی) السلك الهوائی: انٹینا، ایریل۔ سلکی: تار کا، بذریعہ تار۔ لاسلکی: وائرلیس، ریڈیائی ریڈیو براڈ کاسٹنگ (صفت و اسم) ریڈیو گرام، ریڈیو سپیشلسٹ۔ اشارة لاسلکیة: ریڈیائی پیغام۔ عامل لاسلکی: ریڈیو اوپریٹر۔ سِلکة جمع سِلك: تار، دھاگا، تار (بجانے والا) سلوك: رویہ، طرز عمل، سلوک، برتاؤ، تمیز، شائستگی، طور طریقہ، چال چلن، سبھاؤ۔ حسن السلوك: اچھا رویہ، طرز عمل، اچھی تمیز، شائستگی۔ قواعد السلوك: یا آداب السلوك: آداب محفل، مجلسی آداب۔ مَسْلَك جمع مسالك: سڑک، راستہ، طریق عمل پالیسی، طریقہ کار، طریقہ۔ المسالك البولیه: پیشاب کے گزرنے کے راستے۔ مَسَالِكُ الهواء: سانس لینے کی گزرگاہیں۔ مَسْلَکی: پیشہ ورانہ، صنعتی، تجارتی۔ سَالِك جمع سَالِكون: روحانی راستہ پر چلنے والا۔

سلم: ۱۔ سَلِمَ۔ سَلَامَةً و سَلَامًا من عیب او آفة: کسی عیب یا آفت سے نجات پانا، چھٹکارا پانا، یا بری ہونا۔ ـ لَهُ المالُ: کے لئے مال کا مخصوص ہونا۔ کہتے ہیں: لابذی تَسْلَمُ ما کان کذا۔ (نہیں، اس ذات کی قسم جو تمہیں محفوظ رکھتی ہے، ایسا نہیں تھا۔ اور مخاطب کے تثنیہ و جمع، تذکیر و تانیث کے لحاظ سے کہتے ہیں بذی تسلمان و تسلمون و تسلمین اور علی هذا القیاس اِذْهَبْ بذی تسلم سلامتی کے ساتھ جاؤ۔ سَلَمَ ـ سَلْمًا الدلوَ: ڈول بنانے سے فارغ ہونا، ڈول مضبوط بنانا۔ سَلَّمَ هُ و سَلَّمَ علیه: کو سلام کرنا، کو سلام علیک کہنا۔ و۔ هُ من الآفة: کو آفت سے بچانا۔ ـ بالامر: پر راضی ہونا۔ الیه: کا فرمانبردار ہونا۔ ـ الشیءَ: چیز کو خالص کرنا۔ سَالَمَ هُ: سے صلح کرنا، مصالحت کرنا۔ أَسْلَمَ: مطیع و فرمانبردار ہونا، مسلمان ہونا۔ العدوَّ: دشمن کا ساتھ چھوڑ دینا۔ امرَهُ الی اللّٰه: اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا، جب آپ کسی کو ایسے شخص کے بارے میں اختیار دیدیں جو اسے تنگ کرنا چاہتا ہے کہ جو مناسب سمجھے کرے تو کہتے ہیں۔ اسْلَمْتُهُ و سَلَّمْتُهُ۔ تَسَلَّمَ: مسلمان ہوجانا۔ تَسَلَّمَ منه: سے بری ہونا، بیزار ہونا۔ تَمَسْلَمَ: مسلمان کہلانا۔ تَسَالَمَ القومُ: مصالحت کرنا آپس میں اتحاد و اتفاق کرنا۔ ت الخیلُ: بغیر لڑائی بھڑائی کے گھوڑوں کا ساتھ ساتھ چلنا۔ اِسْتَلَمَ الحجرَ الأسودَ: حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا یا منہ سے چومنا۔ استلمتُ یدَهُ: میں نے اس کے ہاتھ کو چھوا اور چوما۔ اِسْتَسْلَمَ: مطیع و فرمانبردار ہونا۔ السَلْم (مص): (بمعنی سِلمٌ) جمع اَسْلُم و سِلام: ایک کڑے والا ڈول۔ قومٌ سَلْم: صلح کن لوگ۔ السِلْم: صلح کرنے والا۔ کہتے ہیں۔ انا سِلْمٌ لمن سالمنی و حربٌ لمن حاربنی: میں صلح کرنے والے کے لئے صلح جو اور لڑنے والے کے لئے جنگ جو ہوں۔ الاسلام: صلح، سلامتی۔ السَلَم: سلامتی، تابعداری، قید، قیدی۔ السَلَامَ (مص): تسلیم کا اسم، سلام، طاعت و فرمانبرداری کے لئے جھکنا (ایک آیت میں ہے۔ السلام علی من اتبع الهدی: یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلے گا وہ اس کے عذاب اور ناراضگی سے بچا رہے گا)۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام۔ کیونکہ اسکی ذات تمام عیوب (نقائص سے پاک و بری ہے) دار السلام: جنت مدینة السلام: بغداد نهر السلام: دجلة، السَلَامَة (مص): عیوب و آفات سے پاکی اور بریت۔ السَلِمَة جمع سِلَام: پتھر۔ السَلِیم جمع سَلْمَی: سخت زخمی، قریب الموت۔ جمع سُلَماء: آفات سے بچا ہوا اور محفوظ کہتے ہیں۔ فلانٌ سلیم القلب و سلیم النیة: یعنی وہ صالح ضمیر والا ہے۔ الأسْلَم م سُلْمَی: سالم سے اسم تفضیل آفات سے محفوظ شخص کے لئے، بمعنی زیادہ محفوظ، محفوظ تر۔ سُلَیمی: کہتے ہیں۔ طَوَتْهُم سُلَیمی (اسم تصغیر): مراد وہ لوگ جو مر گئے۔ زمین نے انہیں اپنے اندر چھپا لیا۔ الاسلام: اللہ کے حکم کے سامنے بلا چون و چرا سر جھکا دینا، دین اسلام، کبھی مسلمانوں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی اہل الاسلام کے معنی میں۔ التسلیم (مص) عند ارباب السیاسة: جنگ بند کرنا اور فاتح کی اطاعت قبول کرنا۔ المُسلِم: جمع مسلمون م مُسْلِمَة جمع مُسلمات: دین اسلام کا متبع۔

۲۔ سَلَمَ ـ سَلْمًا ته الحیَّةُ: کو سانپ کا ڈسنا۔ اُسْلِمَ: کو سانپ کا ڈس لینا۔ اُسْلِمَ: کو سانپ کا ڈس لینا۔ السَلِیم جمع سَلْمی: سانپ کا ڈسا ہوا۔ السُلَیمانی: ایک قسم کا زہر جو پارہ سے تیار کیا جاتا ہے۔

۳۔ سَلَمَ ـ سَلْمًا الجلدَ: چمڑے کو سَلَم درخت کے پتوں سے رنگنا۔ السَلَم (واحد سَلَمَة): کا واحد (ن) ایک خاردار درخت جو گرم ممالک میں اُگتا ہے، جس کے پتے چمڑے رنگنے میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ ارضٌ مَسْلُوماء: وہ زمین جہاں سَلَم کے درخت بکثرت پائے جائیں۔

۴۔ سَلَّمَ هُ الشیءَ: کو کوئی چیز دینا۔ هُ الی فلان: فلاں کو دینا یا اس کے سپرد کرنا۔ تَسَلَّمَ الشیءَ: چیز لینا، چیز پر قبضہ کرنا، چیز کو قبضہ میں لینا۔

۵۔ اِسْتَلَمَ الزرعُ: کھیتی کا خوشہ نکالنا۔

۶۔ السَّالِم: آنکھ اور کان کے درمیان کی کھال۔ السَّلام و السِّلام: جس کا واحد سَلَامَة اور سِلَامَة ہے (ن): کڑوے ذائقہ کا ایک درخت۔ السَلِمَة: نرم ہاتھ پاؤں والی عورت۔ السُلَّم جمع سَلَالِم و سَلَالِیم: سیڑھی (مذکر و مونث) کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب کہتے ہیں۔ اِتَّخَذَه سُلَّمًا الی حاجته: اس نے اسے اپنی حاجت روائی کا وسیلہ یا ذریعہ بنایا۔ السلامَی: جنوبی ہوا۔ السُلامَی جمع سُلامِیات: ہر کھوکھلی چھوٹی ہڈی جیسے انگلیوں کی ہڈیاں۔ الأُسَیلِم (ع ا): چھنگلیا اور اس کے اور بیچ کی انگلی کے درمیان کی رگ۔

۷۔ السَلْمُون (ح): میٹھے اور کھاری پانیوں میں رہنے والی ایک قسم کی بڑی مچھلی۔

○ سَلَّمَ امْرَه الی اللّٰه: اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا۔ سَلَّمَ روحَه: جان جان آفرین کے سپرد کرنا، جان دینا، مرجانا۔ سَلَّمَ نفسَهُ الاخیرَ: آخری سانس لینا، موت کے شدید درد میں مبتلا ہونا، حالت نزع میں ہونا۔ سَلَّمَ نفسه للبولیس: اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا۔ سَلَّمَ الیه علی الحُسنی والاساءة: اپنے آپ کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا۔ سَلِّمِ لی علیه: کو میرا اسلام کہنا۔ صلّی اللّٰهُ علیه وسلّم: اللہ آپ کو خوش رکھے اور بخشش عطا فرمائیے۔ (رسول کریم کے متعلق ہے) أَسْلَمَ راسَه الی رُکْبَتَیْه: اپنا سر گھٹنوں میں لینا۔ اَسْلَمَ للّٰه: راضی برضا الٰہی ہونا۔ اَسْلَمَ امرَهُ الی اللّٰه: اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا۔ اَسْلَمَ روحَه (الروح): جان دینا، جان جان آفریں کے سپرد کرنا۔ تَسَلَّمَ مقالید الحکم: اقتدار سنبھالنا۔ سِلم: (مذکر و مونث) امن، سلامتی، دین اسلام۔ حُبُّ السلم: امن پسندی۔ سِلْمِی: امن پسند، جنگجوئی کے خاتمہ کا حامی۔ سُلَّم متحرّك: رواں زینہ۔ سلام جمع سلامات: سلام، سلامی، فوجی سلامی، قومی ترانہ۔ السلام العام: بہبود عامہ، عام

خوشحالی، رفاہ عام، رفاہ عامہ۔ یا سلام: خدا کی پناہ، خدا پناہ، توبہ، ارے توبہ۔ معاذ اللہ: Good Lord! good heavens, oh dear!

یا سلام علی: کتنے افسوس کی بات ہے کہ...... کیا خوب ہے کہ بَلِّغ سلامی الیہ: کو میرا اسلام دینا۔

سَلامِلِك: (ترکی لفظ) کمرہ استقبال، بیٹھک، دیوان۔

السلامة الاجماعیه: اجتماعی حفاظت، ضمانت، کفالت۔

سلامة الذوق: عمدہ ذوق۔ سلامةُ (املاكِ) البلاد: ملک کی سالمیت۔ سلامة النية: نیت کا خلوص، خلوص نیت۔ بسلامة النية: واقعی خلوص سے نیک نیتی سے، خلوص سے، صدق دلانہ۔ مع السلامة: خداحافظ، الوداع۔ سلیم البُنیة: صحت مند، تندرست۔

سلیم العقل: ہوشمند۔ سلیم القلب: بے ریا، مخلص، نیک طبیعت۔ ذوق سلیم: عمدہ ذائقہ، ذوق۔ اسلم: محفوظ تر، زیادہ آزاد، زیادہ صحت مند۔ سلیمان: سلیمان (ایک نبی کا نام) حوت سلیمان: سامن مچھلی۔ اِفادۃ الاستسلام: وصول کی اطلاع۔ مُسَلَّم و مُسَلَّم به: تسلیم شدہ، ناقابل تردید۔ مُستَلِم: وصول کنندہ، جسے مال بھیجا جائے، مرسَل الیہ۔

سِلِندَر جمع سلندرات: سلنڈر Cylinder

سَلمُون: ایک بڑی مچھلی کی جنس جو میٹھے اور نمکین پانی میں رہتی ہے۔ سلن: السلینوس (ن): ایک قسم کا پھول۔

سلہ: اِسلَهَبَّ الفرسُ: گھوڑے کا لمبا ہونا۔ السَلهَب جمع سَلاهِب و سَلاهِبَة: لمبا۔ السَلهَبة من النساء: بڑے قد و قامت کی عورت، جسیم عورت۔

سلا: ۱۔ سَلا۔ سَلوًا و سُلوًّا و سُلوانًا و سَلِیَ۔ سُلِیًّا الشیءَ و عنه: چیز کو بھول جانا، سے تسلی پانا، سے توجہ ہٹنا۔ سَلّی تَسلِیَةً فلانًا عن الشیء: کو کسی چیز کے بارے میں تسلی دینا۔ ۂ عن همه و منه: کا غم دور کرنا۔ أَسلی اِسلاءً القومَ: درندوں سے امن میں ہونا۔ ۂ عن همه: کا غم دور کرنا۔ تَسَلّی تَسَلِّیًا: تکلف سے تسلی کا اظہار کرنا، تسلی پانا کہتے ہیں۔ سَلّاہ و اَسلاہ فتسلّی: اس نے اسے تسلی دی اور اس کا غم دور کیا تو اسے تسلی ہو گئی۔ تَسَلّی الهمُّ: غم دور ہونا۔ اِنسَلی الهمُّ: غم دور ہونا۔ السُلوَة والسَلوَة: تسلی کہتے ہیں۔ هو فی سَلوَةٍ من العیش: وہ آسودہ حالی میں ہے۔ اَسقَیتَنی سَلوَةً من نفسك: (میں نے تجھ سے وہ چیز دیکھی جس سے مجھے تسلی ہو گئی) السُلوان (مص) والسُلوانة والسَلوانه: ایک قسم کا مہرہ جس کو نظر بد سے بچنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ السَلوی: ہر تسلی بخش چیز، شہد۔ المَسلاة: تفریح گاہ، تفریح کی چیز، تفریح، تسلی، تسکین۔

۲۔ استلی اِستِلاءً ت الشاةُ: بکری کا فربہ ہونا۔

۳۔ السَلوی جس کا واحد سَلواة ہے۔ (ح) لوا: اس پرندہ کو سمانی بھی کہتے ہیں۔ المُسَلّی: گھوڑ دوڑ کا تیسرا گھوڑا۔

۴۔ السَلوَلوز (ك): دیکھو خلوز

سلی: سَلِیَ۔ سَلَّی ت الشاةُ: (بکری کا) ٹوٹی ہوئی جیلی والی ہونا۔ صفت سَلیاء سَلَّی الشاةَ: بکری کی جیلی نکالنا۔ اَسلَی ت الشاةُ: بکری کا جیلی ڈالنا۔ السَلَی جمع اَسلاءَ: جیلی۔ کہتے ہیں۔ انقطع السَلَی فی البطن: اب حیلہ جاتا رہا اور مصیبت بڑھ گئی۔ هو آکل الأسلاء: وہ بہت خسیس و کمینہ ہے۔

۲۔ السِلیلُوید: مسالہ: سلولائید

سَلوَی: اسم جنس واحد سلواۃ جمع سِلاوی: بٹیر quoil مُسَلٍّ: دلچسپ، تسلی دہ، ڈھارس بندھانے والے، موجب تسلی۔ سلوفینیا: Slovenia

مُسلی: پکانے کا مکھن۔ مُسلی نباتی: نباتاتی مکھن۔

سمّ: ۱۔ سَمَّ۔ سَمًّا: کو زہر پلانا۔ ۔۔۔ الطعامَ: کھانے میں زہر ملانا۔ سَمَّمَ الطعام: کھانے میں زہر ملانا۔ السُمّ والسَمّ والسِمّ جمع سِمام وسُموم: زہر۔ سُمّ السَمَك (ن): ایک پودے کا زہریلا مادہ جو مچھلی کو قتل کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سُمّ الحمار (ن): کینَر۔ سَمّ ساعة: فوراً ہلاک کر دینے والا زہر۔ السّام: زہریلا۔ سامُّ أبرص و سَمُّ أبرص: تثنیہ ساما ابرص جمع ابارص و سوام ابرص (ح): چھپکلی۔ اس ابی بُرَیص بھی کہتے ہیں۔ السامّة: مونث سام۔ سُمِّیَّةُ الشیء: چیز کا زہریلا اثر۔

۲۔ سَمَّ۔ سَمًّا القارورة: بوتل کو بند کرنا۔ ۔۔۔ الشیءَ: چیز کی اصلاح کرنا، درست کرنا۔ ۔۔۔ بینهما: دونوں کے درمیان صلح کرانا۔ الامرَ: معاملہ کی تہہ تک پہنچنا، آزمائش کرنا، جانچنا۔ کہتے ہیں۔ اصابَ سَمَّ حاجته: یعنی اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔

۳۔ سَمَّ۔ سُمًّا النعمة الیه: کے لئے نعمت مخصوص کرنا۔ ۔۔۔ الشیءَ: سب کو عام کرنا یہاں تک کہ خواص تک پہنچ گئی۔ السامّة: خاص۔ کہتے ہیں عرف ذلك السامّة و العامّة: اس کو عام خاص سب لوگ جانتے ہیں۔ السُمّة جمع سُمَم و سِمام: رشتہ داری، قرابت۔ اهل المَسَمّة: انسان کے خاص اور اقارب۔

۴۔ سَمَّ۔ سُمومًا ت الریحُ: ہوا کا جھلسانا۔ سُمَّ الیومُ: دن کا شدید گرمی والا ہونا، دن کا گرم ہوا والا ہونا۔ ۔ النباتُ: پودے کا ہوا سے جھلس جانا۔ صفت مسموم۔ أَسَمَّ اسمّاما الیومُ: دن میں باد سموم چلنا۔ السَمُوم جمع سَمائِم: گرم ہوا، لو (مونث)۔ یوم سامّ و مُسِمّ و مَسموم: جھلسا دینے والا دن۔ وہ دن جس میں باد سموم چلے۔

۵۔ السَمّ جمع سِمام و سُموم: سوراخ جیسے سوئی کا ناکہ۔ جمع مَسام (ن) پتوں کے باریک سوراخ جس سے وہ سانس لیتے ہیں اور ان کا پسینہ نکلتا ہے۔ المسام من الجلد (ع ا): جلد کے باریک باریک مسامات و سوراخ۔ السَمّ: ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سمندر سے نکلے مثلاً سنکھ، گھونگا۔ ۔۔۔ والسِم جمع سِمام و سُموم: سوراخ جیسے سوئی کا ناکہ۔ السُمّة جمع سُمَم و سِمام: کھجورے کے پتوں کی چٹائی جو کھجور کے درخت کے نیچے اس مقصد سے بچھائی جاتی ہے کہ اوپر سے گرنے والی کھجوریں اس پر گریں۔ زینت کی خاطر پروئی ہوئی کوڑیاں۔ السَمام: ہر ہلکی پھلکی اور تیز چیز واحد سَمامَة (ح) ایک چھوٹا پرندہ۔ السِمام و السُموم من الانسان: انسان کا منہ، ناک، کان۔ السَمامَة: کا بعد انسانی، انسان کی شکل و صورت وضع قطع۔ (بهیُّ السَماعَة: خوبصورت شکل و صورت والا)، کھنڈرات، جھنڈا، گھوڑے کی گردن پر کا دائرہ۔ ۔ سمائم کا واحد: ابابیل کے مانند ایک پرندہ اس کے انڈے ناقابل حصول ہیں۔ اس لئے عرب کہتے ہیں۔ کلّفتنی بَیضَ السَمائِم: یعنی تم نے ناقابل وصول و ناقابل عمل کام کرنا میرے ذمہ لگایا۔ الاسَمُّ الانف: تنگ نتھنے والا۔

۶۔ سَمسَمَ الثعلبُ: لومڑی کا دوڑنا۔ ۔ الرَجُلُ: مرد کا نرم چال چلنا۔ السَمسَم: (ح) لومڑی، بھیڑیا۔ السُمسُم جمع سَمامِم: سبک آدمی۔ السُمامِم (ح) لومڑی۔ والسُمسُمان والسُمسُمانی: سبک مرد، پرلطیف چیز۔

۷۔ السِمسِم: زہر السُمسُم: (واحد سُمسُمة) (ح): سرخ چیونٹی، چھوٹی چیونٹی۔ السِمسِم: تل (ن): وہ پودا جس میں تل لگتے ہیں۔ (ح) ایک قسم کا سانپ۔ رجلٌ مُسَمسَمُ الوجه: وہ شخص جس کے چہرے پر تلوں جیسے نقطے ہوں۔

سَمّ جمع سُمُوم و سِمَام: زہر، سانپ کا زہر، سوراخ (سوئی کا ناکہ) السموم البیضاء: سفید بیہوش کرنے والی دوائیں (جیسے کوکاکین، ہیروئن وغیرہ) سَمُوم (م) جمع سَمَائم: گرم ہوا، لو، گرم ریت کا جھکڑ۔ مَسَام و مَسَامات (جمع) جلد کے مسام۔ مَسَامِی: مسام دار۔ مَسَامِیہ: مسام داری۔ تَسَمَّمَ: زہریلا ہونا، مسموم کرنا۔ التسمم الدموی: خون کا زہریلا پن Blood poisoning۔ سام و مسموم: زہریلا۔ مُسِمّ: زہر دار۔ سَمَانجُونی: نیلا آسمانی، نیلگوں۔

سما: سَمَأَل الخلُّ: سرکہ کا مکھیوں والا ہونا، سرکہ پر مکھیوں کا آجانا۔ السَّمَوْأَل (ح) سرکہ کے اوپر کی مکھی، ایک مشہور شہسوار اور جاہلیت کا شاعر جو وفا میں ضرب المثل ہے۔ اوفی من السموأل: وہ سموال سے زیادہ وفادار ہے۔

۲۔ اِسْمَأَلَّ اِیْ سُمْلالاً: دبلا و لاغر ہونا۔ — الظلُّ: سایہ کا چھوٹا ہونا اور اونچا ہونا۔ السَّمَأَل و السَّمَوْأَل سایہ۔ المُسْمَئِلّ: بوسیدہ کپڑا۔

سمت: ا۔ سَمَتَ ـِ سَمْتاً: راستہ پر رہنا، راہ راست پر چلنا، گمان سے راستہ پر چلنا۔ الشیءَ و سَمَتَ نَحْوَہٗ: کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، اسی سے ہے۔ وھُنَّ الی البیتِ العتیق سَوَامِتُ: وہ بیت اللہ شریف کی طرف قصد کرنے والیاں ہیں۔ — لھم: ان کے لئے گفتگو کا رخ اور رائے مہیا کرنا۔ سَمَّتَ: راستہ پر رہنا۔ سَامَتَ ہٗ: کے مقابل اور آمنے سامنے ہونا۔ تَسَمَّتَ ہٗ: کا ارادہ اور قصد کرنا۔ السَّمْتُ (مص) جمع سُمُوت: راستہ۔ کہتے ہیں۔ خُذْ فی ھذا السَّمْتِ: اس راستہ (پر چلنے) کو شروع کرو، اہل خیر کا رویہ (کہتے ہیں۔ ما اَحْسَنَ سَمْتَ فلان: اس کا رویہ کتنا اچھا ہے)۔ لباسوں وغیرہ کا وہ انداز جو عموماً مقبول ہو (عام لوگوں کی زبان میں)۔ سَمْتُ الرأس: (فلک) (علم ہیئت کی اصطلاح میں) آسمان پر وہ نقطہ جو سیدھے کھڑے ہوئے انسان کے سر کے بالکل سیدھ میں ہو۔) سمت القدم، سمتُ الرِّجل، نظیر السمت: آسمانی کرہ کا نقطہ جو افق کے نیچے اس جگہ کے شاقول پر واقع ہو۔ اسے نظیر السمت بھی کہتے ہیں۔ سمت کوکب: (فلک) ستارہ کی بلندی اور خط نصف النہار کے دائرہ کی سطحوں کے درمیان واقع زاویہ۔

۲۔ سَمَّتَ للعاطس: چھینکنے والے کے لئے یرحمک اللہ کہہ کر دعا کرنا۔ علی الشیءِ: پر اللہ کا نام لینا۔

○ سَمْتٌ جمع سُمُوت: راستہ، سڑک، انداز، طریقہ۔ اخذ سمته الی: کی طرف جانے والی سڑک اختیار کرنا، یا اس پر چل پڑنا۔

سمج: سَمُجَ ـُ سَمَاجَةً و سُمُوجَةً: بدشکل ہونا، قبیح ہونا۔ سَمْج و سَمِج و سَمِیج جمع سِمَاج و سَمْجُون و سُمَجَاء سَمَاجَی: بدشکل، قبیح۔ سَمَّجَ ہٗ: کو بدشکل یا قبیح بنانا۔ اِسْتَسْمَجَ ہٗ: کو قبیح جاننا، سمجھنا۔ السَّمْج و السَّمِیج: خراب اور بدمزہ دودھ۔

○ سَمُجَ ـُ: بدصورت ہونا، نفرت انگیز ہونا، گھناؤنا، برگشتہ کرنے والا ہونا۔ سَمَّجَ ہ: کو بدصورت بنانا، قابل نفرت بنانا۔ سَمْج جمع سِمَاج و سَمِج جمع سَمَاجَی: بدصورت، نفرت انگیز، قابل نفرت، گھناؤ، برگشتہ کرنے والا۔ سَمِیج جمع سِمَاج و سُمَجَاء: مندرجہ بالا معنے۔ سَمَاجَة: بدصورتی، نفرت انگیزی، کراہت۔

سمح: ا۔ سَمُحَ ـُ سَمَاحاً و سُمُوحاً و سَمَاحَةً و سُمُوحَةً و سَمْحاً و سِمَاحاً: فیاض و سخی ہونا۔ سَمْح و سَمِیح و مِسْمَح و مِسْمَاح جمع سِمَاح و سُمَحَاء و مَسَامِیح: فیاض و سخی۔ آپ کہتے ہیں۔ رجالٌ ونساءٌ سِمَاح و سُمَحَاءُ و مَسَامِیح: فیاض اور سخی مرد و عورتیں۔ سَمَحَ ـَ سَمَاحاً و سَمَاحَةً بکذا: کی بخشش کرنا۔ — لہ بالشیء: کو کوئی چیز دینا، عطا کرنا۔ أَسْمَحَ الرجلُ: فیاض و سخی ہونا۔ السَّمْحَة سَمْح کا مونث جمع سِمَاح: صرف۔ المَسْمَح: وسعت و فراخی۔ کہتے ہیں۔ ان فی الحق لَمَسْمَحاً: حق بات میں وسعت و فراخی ہے۔

۲۔ سَمَحَ ـَ سَمَاحاً و سَمَاحَةً العودُ: لکڑی کا نرم ہونا۔ ـتِ الناقةُ: اونٹنی کا مطیع اور تیز رفتار ہونا۔ سَمَّحَ: نرم ہونا، نرمی کا برتاؤ کرنا۔ — الرُّمْحَ: نیزہ کو نرم کرنا۔ — الرجلُ: نرم چال چلنا، تیز چلنا، بھاگنا۔ سَامَحَ ہٗ فی الأمر و بالامر: سے نرم برتاؤ کرنا، کے مقصد میں، موافقت کرنا۔ ہٗ بذنبہ: کا گناہ معاف کرنا، کے گناہ سے درگزر کرنا۔ کہتے ہیں۔ سامحك اللّٰہ: اللہ (آپکی غلطی) سے درگزر فرمائے۔ أَسْمَحَ ـتِ الدابةُ: جانور کا سرکشی کے بعد نرم ہونا۔ کہتے ہیں۔ أَسْمَحَتْ قُرُونَتُہٗ: اس کے نفس نے ذلیل ہو کر اس کی اطاعت کرلی۔ تَسَمَّحَ و تَسَامَحَ فی کذا: میں نرمی برتنا۔ بَیْعُ السَّمَاح: وہ بیع جس میں قیمت گھٹانے میں نرمی کی جائے۔ کہتے ہیں۔ السَّمَاح (رباح) معاملات میں نرمی کے ساتھ نفع [illegible]

اندوزی ہے۔

۳۔ رقصُ السَّمَاح: مشائخ کا وہ رقص جو وہ عبادت میں کرتے ہیں۔ السِّمَاح: چمڑے کے خیمے۔

○ سَمَحَ ـَ سَمَاحاً (ل ب): کو فراخ دلی سے کچھ ادا کرنا۔ ل ب /ان: کو کسی چیز کی یا کچھ کرنے کی اجازت دینا۔ ل ب: کو کچھ کرنے کا اختیار دینا۔ لاسمح اللّٰہ: اللہ نہ کرے۔ اِسْتَسْمَحَ ہٗ: سے اجازت طلب کرنا، سے معافی یا درگزر کی درخواست کرنا۔ سماحته: صاحب امتیاز۔ سماحة المفتی: مفتی کا لقب۔ مسامحات: چھٹیاں۔ مسموح بہ: جائز، روا، قابل قبول، قابل تسلیم، قابل تقرر، اہل، جس کی اجازت دی گئی۔ متسامح: (مع کے ساتھ) بہت ہی شفیق، مہربان، کے ساتھ مزاج کو قابو میں رکھنے والا۔ صبر سے کام لینے والا، بردبار، متحمل۔

۴۔ السِّمْحَاق (ع ا) سر کی ہڈی پر باریک جھلی۔ سَمَاحیق السماء: آسمان پر بادل کے ہلکے ٹکڑے۔ کہا جاتا ہے: علی ثرب الشاة سماحیق من الشحم: بکری کی اوجھ کی چادر پر چربی کی کچھ جھلی کی ہے۔

سمخ: ا۔ سَمَخَ ـُ سُمُخاً الزرعُ: کھیتی کا پھوٹنا۔ زرعٌ حسنُ السِّمْخَة: اچھی اگنے اور بڑھنے والی کھیتی۔

۲۔ سَمَخَ ـَ سَمْخاً ہٗ: کان کے سوراخ پر چوٹ لگا کر زخمی کرنا۔ محاورہ ہے۔ سمخنی بحدّة صوته و کثرته: اس نے اپنی آواز کی تیزی سے اور بول بول کر میرے کان کھالئے۔ السِّمَاخ: کان کا سوراخ۔

سمد: ا۔ سَمَدَ ـُ سُمُوداً: حیران کھڑا رہ جانا، مبہوت ہونا، گانا۔ سَمَّدَ الرجلَ: کو کھیل کود میں لگانا، بہلانا۔

۲۔ سَمَدَ ـُ سُمُوداً: تکبر سے سر اونچا کرنا اور سینہ تاننا۔ اسْمَدَّ اِیْ اِسْمِدَاداً و اِسْمَادَّ اِسْمِیْدَاداً الرجلُ: غصہ سے پھول جانا۔ و — ـت یدُہٗ: ہاتھ کا سوجنا، متورم ہونا۔ وطبٌ سَامِدٌ: دودھ کی بھری ہوئی اور اوپر اٹھی ہوئی مشک۔

۳۔ سَمَدَ ـُ سُمُوداً فی العمل: کام میں مشغول ہونا۔ — ـتِ الابلُ: اونٹ کا تیز چلنا۔ — الرجلَ: کا قصد کرنا۔ سَمَّدَ الشَّعَرَ: بالوں کو جڑ سے مونڈ دینا۔ اسْمَدَّ اِیْ اِسْمِدَاداً و اسْمَادَّ اِسْمِیْدَاداً الشیءُ: چیز کا جاتا رہنا، گم ہو جانا۔ السَّمْد: (مص) کہتے ہیں۔ ھو لك سَمْداً: وہ ہمیشہ کے لئے تمہارا ہے۔

۴۔ سَمَدَ الارْضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ السَّماد (ز) کھاد۔

۵۔ السَّمِیدم سَمِیْدَہ (ط): دلی ہوئی گیہوں (عام بول

چال میں)

۶- السَّمَنْدَر و السَّمَنْدَر (ح): پانی اور خشکی کا ایک جانور۔ کہتے ہیں وہ ایک ایسا مادہ خارج کرتا جس سے آگ بجھ جاتی ہے اس لئے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جلتا نہیں (یونانی لفظ)

۷- السَّمَیْدَع جمع سَمَادِع: فیاض سردار، شریف، بہادر (ح) بھیڑیا، تلوار۔

سمذ: السَّمِیذ جسے السمید بھی کہا جاتا ہے (ط) سفید آٹا۔

سمر: ۱- سَمَرَ - سَمَرًا و سُمُورًا: رات کو باتوں میں گزارنا اور نہ سونا۔ محاورہ: لا افعلہ ما سمر السمیر او ابن سمیر او ابنا اسمیر: جب تک لوگ راتوں کو باتیں کرتے رہیں گے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مراد کبھی بھی نہیں کروں گا۔ سَامَرَہُ: کے ساتھ رات کو باتیں کرنا۔ تَسَامَرَ القومُ: لوگوں کا رات کو آپس میں باتیں کرنا۔ قومٌ سَمَرٌ: راتوں کو باتیں کرنے والے۔ السَّمَر: رات کو باتیں کرنے والا۔ جمع أَسْمَار: رات کی باتیں، رات، رات کی تاریکی۔ (کہتے ہیں۔ لا آتیہ سَمَرًا: یعنی میں رات کو اس کے پاس نہیں آؤں گا) چاند کا سایہ یعنی وہ چیز جو چاندنی آنے میں مانع ہو جیسے دیوار یا چھت وغیرہ اور کبھی عرب جہاں چاندنی نہ ہو اسے قَمَرٌ اور جہاں ہو اسے بطور مقابلہ سَمَرٌ کہتے ہیں۔ (لا أُکَلِّمُہُ السَّمَرَ وَ القَمَرَ: یعنی جب تک چاند سایہ فگن ہے اور چمکتا ہے گا میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا اور یہاں مدت وجود السَّمَرَ و القَمَرِ مراد ہوتی ہے)۔ زمانہ راتوں کو باتیں کرنے والوں کی مجلس۔ اَلسَّمَرَۃ: رات کی گفتگو۔ السَّامِر (فا) جمع سُمَّر و سُمَّار: راتوں کو باتیں کرنے والوں کی محفل۔ آپ کہتے ہیں۔ اَمْسَیْتُ البَارِحَۃَ فِی سَامِرِ الحَیِّ: میں نے گزشتہ روز محلہ کی راتوں کو باتیں کرنے والوں کی مجلس میں گزارا۔ ــ و السَّامِرَۃ: اسم جمع ہے باتیں کرنے والوں کے معنی میں۔ السَّمِیْر: راتوں کو باتیں سنانے والا، زمانہ۔ کہتے ہیں۔ لاأفعلُہُ سَمِیرَ اللَّیالِی: میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ابنُ سَمِیر: رات جس میں چاند نہ نکلا ہو۔ اِبْنَا سَمِیْر: رات اور دن۔ السِّمِّیر: رات میں باتیں سنانے والا۔

۲- سَمِرَ - وَ سَمُرَ - سُمْرَۃً و اسْمَرَّ اسمِرَارًا و اسمَارَّ اسمِیرارًا: سیاہ و سفید کے درمیان رنگ والا، یعنی گندم گوں ہونا۔ اسْمَر م سَمْرَاء جمع سُمْر: گندم گوں۔ سَمَرَ - سَمْرًا اللبنَ: دودھ میں پانی ملا کر پتلا کرنا۔ الخمرَ: شراب پینا۔ سَمَّرَ الخمرَ: شراب پینا۔ اللبنَ: دودھ میں پانی ملا کر اسے پتلا کرنا۔ تَسَمَّرَ: میخ سے مضبوط ہونا۔ الأسمرُ: ہرنی کا دودھ، نیزہ، کہتے ہیں: عامٌ أسمرُ: بے بارش والا خشک سال۔ الأَسْمَرَان: پانی اور گیہوں، پانی اور نیزہ۔ السَّمَار: بہت پانی والا دودھ۔ السَّامُور: ہیرا۔ السَّمُّور جمع سَمَامِیر (ح) نیولے کے مشابہ اور اس سے قدرے بڑا ایک جانور۔ اسکی کھال سے پوستین بنائے جاتے ہیں۔ اس کی کھال کو بھی سَمُّور کہتے ہیں۔ المَسْمُور (سَمَرَ اللبنَ سے مشتق ہے) پانی ملے دودھ میں بھگوئی ہوئی روٹی۔

۳- سَمَرَ - سَمْرًا العینَ: گرم سلائی سے آنکھ پھوڑنا۔ سَمَرًا الباب وغیرَہُ: دروازہ وغیرہ کو کیل سے مضبوط کرنا۔ سَمَّرَ الباب وغیرہ: دروازہ وغیرہ کو کیل سے مضبوط کرنا۔ المِسْمَار جمع مَسَامِیر: کیل، میخ، اونٹوں کا اچھار کھوالا۔ المَسْمُور: کم گوشت سخت پٹھوں والا۔

۴- سَمَرَ - سَمْرًا و سَمَّرَتِ الماشیۃ النباتَ: مویشی کا گھاس چرنا۔

۵- سَمَرَ - سَمْرًا و سَمَّرَ السهمَ: تیر چھوڑنا، چلانا۔ السَّمُوْر: تیز رفتار اچھی نسل کی اونٹنی۔

۶- السَّمُر جمع أَسْمُر جس کا واحد سَمُرَۃ ہے (ن): ایک درخت جس کی لکڑی بہت عمدہ ہوتی ہے۔ السَّمَار (ن): ایک پودا لمبے تنے والا، سیدھا کھڑا رہتا ہے، اس کے پتے ٹوکریاں، چٹائیاں، چھابے، چنگیریں وغیرہ بنانے میں استعمال کئے جاتے ہیں۔

۷- السُّمْرُوت: لمبا، طویل۔

۸- السَّمَرْمَر واحد سَمَرْمَرَۃ (ح): ٹڈی کا شکار کرنے والا ایک چھوٹا پرندہ، تلیر۔

Ⓤ سَمَرَ ہ الی: کو سے کیلوں کے ذریعے جوڑنا۔ ــ المِسْمَار: کیل گاڑنا، ٹھوکنا۔ سَامَرَہ: کے ساتھ رات یا شام خوشگوار بات چیت، گپ شپ میں گزارنا، کیساتھ گفتگو، گپ شپ کرنا۔ تَسَمَّر: میخ ٹھکنا، کیل سے جڑنا، اپنی جگہ کھڑا رہ جانا جیسے زمین نے پاؤں پکڑ لئے ہوں۔ سُمْرَۃ: سانولا پن، بھورا، گندمی رنگ۔ سَمَار: سیٹھا کی ایک قسم، جو چٹائیاں وغیرہ بننے کے کام آتی ہے۔ سمار ہندی صلب: بانس کی ایک قسم۔ سَمیر: رات کی گپ شپ کا ساتھی، رات کی گپ شپ میں شریک۔ عموماً کہانیوں، گیتوں، موسیقی اور تفریح کی محفلوں میں مہمان نواز۔ سَمِیرَۃ: سمیر کا مونث۔ سَمراوات: گندم گوں عورتیں۔ مَسَامِر (جمع) شام یا رات کی تقریبات، جس میں بات چیت، گپ شپ، کھیلیں، نغمہ سرائیاں اور کہانیاں وغیرہ شامل ہوں۔ مِسمار جمع مسامیر کیل، میخ، پن، کوکا، ریٹ، گٹا۔ الخط المسماری: خط میخی، خط پیکانی۔ سَوَامِر (جمع) تفریح کی شامیں، سماجی شامیں، شام اور رات کو سجائی جانے والی محفلیں۔ مُسَمَّرٌ: کیلوں سے جڑا ہوا۔ السَّامِرۃ: سامری کی جمع۔ سامری جمع سامریون و سَمَرَۃ: سامری۔

سمرقند: ازبک سوویت یونین کا ایک شہر۔

سمس: سَمْسَرَ سَمْسَرَۃً: دلالی کرنا۔ السِّمْسَار جمع سَمَاسِرَۃ و سَمَاسِر و سماسیر (ت): دلال، چیز کا مالک اور منتظم۔ سِمْسَارُ الارض: زمین کا ماہر۔ السَّمْسَرَۃ: (مص)، دلالی، دلالی کا پیشہ اور اسکی اجرت۔

۲- السَّمْسَق و السَّمْسِق و السُّمْسُق و السُّمْسُق (ن): چنبیلی، مرزنجوش۔

Ⓤ سَمْسَرَ: دلالی کرنا۔ سَمْسَرۃ: دلالی۔ سِمسار جمع سَمَاسِرۃ سَمَاسِر و سماسیر: دلال، ایجنٹ۔ سمسار الأسهم: دلال حصص Stock broker

سمسیرۃ: دلال، بچولا، رشتے کرانے والا۔ سِمْسِم: تل، کنجد، سم سم۔

سمط: ۱- سَمَطَ - سُمُوطًا الرجلُ: چپ و خاموش ہونا۔ سَمَّطَ و اَسْمَطَ: چپ ہونا، خاموش ہونا۔

۲- سَمَطَ - سَمْطًا السکّینَ: چھری تیز کرنا۔ ــ الجدیَ: بکری کے بچے کے بال گرم پانی سے صاف کر کے اسے بھوننا۔ السِّمْط: اونی کپڑا۔ نعلٌ سُمْطٌ و أَسْمَاط: اکہرے چمڑے کا جوتا۔ ناقۃٌ سُمْطٌ و أَسْمَاط: بے داغ اونٹنی۔ سَرَاوِیلُ أَسْمَاطٌ: اکہرا پاجامہ۔ ماءٌ سَامِطٌ (فا): جوش دیا گیا پانی جو کسی چیز کے بال وغیرہ، صاف کر دے۔ نعلٌ سَمِیط: اکہرے چمڑے کا جوتا۔ التسمیط (طب): زیادہ چلنے سے رانوں کے اندر کی طرف جلن۔

۳- سَمَطَ - سَمْطًا الشیءَ: کو لٹکانا۔ سَمَّطَ الشیءَ: کے ساتھ چمٹنا، لپٹنا، لگا رہنا، کوزین کے تسمہ سے لٹکانا۔ ــ الشاعرُ: شاعر کا، مُسَمَّط اشعار نظم کرنا۔ ــ قصیدۃ فلان: کسی کے اشعار میں ہر ہر شعر کے مصرعوں میں ایک مصرعہ اپنی جانب سے شامل کرنا۔ تَسَمَّطَ الشیءُ بہ: کے ساتھ لٹکنا۔ السِّمْط جمع سُمُوط: موتی یا مہرہ پروئی ہوئی لڑی، زین کا تسمہ

جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔ (کہتے ہیں۔ عَلَّقَهٗ بسُمُوطِ سرجه: اس نے اسے زین کے تسمہ سے لٹکایا۔ من العمامة: پگڑی کا شملہ، گلوبند (زیور)۔ — من الثیاب: کپڑے کا وہ حصہ جو چادر کے نیچے سے نظر آئے۔ — من الرمل: ریت کی لکیر۔ السِماط جمع سُمُطٌ: صف بستہ چیز، دسترخوان۔ سِماطُ الطریق: راستہ کے ہر دو کنارے۔ القومِ: لوگوں کی صف، قطار کہتے ہیں۔ هم علی سِماطٍ واحدٍ: وہ ایک ہی نظام پر ہیں۔ السَمِیط: بال صاف کیا ہوا اور بھونا ہوا بکری کا بچہ۔ — السُمَیط: اینٹوں کا ردا۔ المُسَمَّط من الشِعر: شعر جو عروضی اجزاء پر منقسم ہو اور قافیہ کی روی پر نہ ہو۔ کہتے ہیں۔ حُکْمُكَ مُسَمَّطاً: تمہارا حکم پورا کیا ہوا ہے۔ تم پر کوئی اعتراض نہیں اصل میں لك حُکْمُكَ مُسَمَّطاً ہے۔ اس کا نصب حال ہونے کی بنا پر ہے۔ کہتے ہیں۔ هو لك مُسَمَّطاً: وہ تمہارے لئے صحت بخش یا مزیدار ہے اور کہتے ہیں۔ خذ حُکْمَكَ مُسَمَّطاً: اپنے حکم کو آسان، با اختیار اور نافذ العمل بنا۔

۴۔ سَمَطَ - سُمُوطاً علی الیمین: قسم کھانا، حلف اٹھانا۔ کہتے ہیں۔ سمطتُ الرجلَ یمیناً علی حقی: میں نے فلاں سے اپنے حق پر قسم کھلائی، حلف لیا۔

۵۔ سَمَطَ - سُمُوطاً اللبنُ: دودھ کی مٹھاس میں فرق آ جانا۔ سَامِط: وہ دودھ جس کی مٹھاس میں فرق آ گیا ہو۔

۶۔ السَمْط (مص) فقیر آدمی۔ رجلٌ سِمْطٌ جمع سُمُوط: چست و چالاک شخص۔ السَمِیط: سبک حال آدمی، فقیر۔

۷۔ السَمَیْطَر: ایک آبی پرندہ جو ہمیشہ پتلے پانی میں ملتا ہے۔

○ سَمَطَ - سَمطاً ہ: کو گرم پانی سے دھونا، تیار کرنا (دودھ کو) جوش دینا، ابالنا۔ سِمطٌ جمع سُمُوط: (موتی کے ہار کی) لڑی۔ سِمَاط جمع سِماطات و سُمُط و اَسْمِطَة: دسترخوان، کھانا۔ مَسْمَط جمع مَسَامِط: وہ جگہ جہاں ذبح کئے ہوئے جانوروں کی کھالیں گرم پانی سے دھوئی جاتی ہیں اور ان کے بال اتارے جاتے ہیں۔ مِسْمَط: جمع مَسامِط: انگور کی بیلوں کی آڑ۔

سمع: ا۔ سَمِعَ - سَمْعًا و سِمْعًا و سَمَاعًا و سَمَاعَةً و سَمَاعِیَةً و مَسْمَعًا الصوتَ: آواز سننا۔ سَامِع جمع سُمَّاع و سَمَعَة و سَامِعون: سننے والا۔ سَمِعَ له اللّٰهُ: کی درخواست قبول کرنا۔ سَمِع منه و له: کو دینا، عطا کرنا۔ الیه: کی طرف کان لگانا۔ سَمَّعَ هُ الصوتَ: کو (آواز) سنانا۔ به: کا عیب مشہور کرنا، رسوا کرنا، بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا، کو گالی دینا، کو بے نقاب کرنا۔ بکذا: کسی کے متعلق کوئی چیز پھیلانا۔ بفلان فی الناس: کا لوگوں میں ذکر کرنا۔ أَسْمَعَ هُ: کو سنانا، گالی دینا۔ تَسَمَّعَ واسَّمَّعَ الرجلَ والیه: کی طرف کان دھرنا۔ تَسَمَّعَ علیه: کی بات چوری چھپے سننے کا ارادہ کرنا۔ تَسَامَعَ به الناسُ: کے متعلق لوگوں کا ایک دوسرے سے سننا۔ اسْتَمَعَ لَهٗ والیه: کی بات پر کان دھرنا۔ اِسْتَسْمَعَ هُ: کو سننا۔ السَامِعَان: دونوں کان۔ السَامِعَة: کان السَمْع: (مص) جمع أَسْمَاع و أَسْمُع وجج أَسَامِع و أَسَامِیع: کان، سننے کی قوت، حس، سنی ہوئی بات، سنا ہوا ذکر۔ کہتے ہیں۔ هو مابین سَمْعِ الأَرضِ وبصرها: وہ ایسی جگہ ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں یا ایسی تنہائی کی جگہ میں ہے جہاں کوئی اس کی بات سننے والا یا دیکھنے والا نہیں۔ القی نفسه بین سَمْع الارض و بصرها: اس نے آپ کو خطرہ میں ڈال دیا اور ایسی جگہ پہنچا دیا جس میں اس کا نہ تو پتہ چل سکے، جہاں نہ انسان کی آواز سنائی دیتی ہے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ نیز کہتے ہیں۔ سَمْعَكَ الیَّ: میری بات سنو۔ یہ بھی کہتے ہیں۔ سَمْعُ أُذنی فلاناً یقول ذلك: میں نے اسے اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا۔ یہ بھی کہتے ہیں۔ سِمْعُ أُذنی و سَمْعَةَ أُذنی و سِمْعَةَ أُذنی: میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ أُم السمع: دماغ۔ السِمْع: اچھا ذکر، اچھی شہرت۔ رجلٌ سِمْعٌ: وہ آدمی جس کی بات سنی جاتی ہے۔ هذا امرٌ ذو سِمْعٍ: یہ معاملہ سننے کے لائق ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی بات سنتا ہے جو اسے اچھی نہیں لگتی تو کہتا ہے۔ سِمْعًا لابِلْغًا یا سَمْعًا لابَلْغًا: سن لے بتاتا نہیں۔ —: جس کی مادہ سِمْعَة ہے۔ بجو سے بھیڑیے کا بچہ اسکی قوت سماع بہت تیز ہوتی ہے یہاں تک کہ ضرب المثل ہے۔ هو أَسْمَعُ من سِمْعٍ۔ السَمْعَة سَمِعَ: کا اسم مرة۔ کہتے ہیں۔ فَعَلَهٗ رِناءً و سَمْعَةً: اس نے یہ اس لئے کیا کہ لوگ اسے دیکھیں اور اسے سنیں۔ أُذنٌ سَمْعَة: سننے والا کان۔ السُمْعَة: شہرت، ذکر، سنی ہوئی بات کہتے ہیں۔ فَعَلَهٗ رِناءً وسُمْعَةً: اس نے یہ کام لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔ أذن سَمِعَةٌ: سننے والا کان۔ السَمَاع: (مص) ذکر شہرت گیت۔ وہ چیز جو عربوں سے سنی جائے اور استعمال کی جائے مگر اس پر قیاس نہ کیا جائے کہتے ہیں۔ هذا امرٌ ذو سَمَاع: یہ بات سننے کے لائق ہے اور کہتے ہیں۔ قالوا ذلك سَمَاعَ أُذنی: لوگوں نے یہ بات میرے سامنے کی۔ سَمَاعِ: سن کے معنی میں اسم فعل ہے۔ السَمَّاع: بہت سننے والا۔ فرمانبردار، مطیع، جاسوس۔ السَمَّاعَة: (جمع سَمَّاعات) اونچا سننے والوں کو سنانے والا آلہ۔ earphone ٹیلی فون کا آواز گیر Telephone receiver صدر بین stetho Scope: أذنٌ سَمَّاعَةٌ: سننے والا کان۔ السَمَاعِیّ (مو): موسیقی کا ایک ٹکڑا، نظم۔ أذنٌ سَمُوعٌ: سننے والا کان۔ السَمِیع جمع سُمَعاء: سننے والا۔ اسم مبالغہ بمعنی مُسمِع: اسماء حسنی میں سے ایک نام، سنی ہوئی بات۔ أُمّ السَمِیع: دماغ۔ أُذنٌ سمیعٌ و سَمِیعةٌ: سننے والا کان۔ التَسْمِعَة کہتے ہیں: فعلته تَسْمِعَتَكَ او تَسْمِعَةً لك: میں نے یہ کام تمہیں سنانے کے لئے کیا۔ المَسْمَع: سننے کی جگہ کہتے ہیں۔ هو منی بمَرأی ومَسْمَع: وہ ایسی جگہ ہے کہ میں اسے دیکھ بھی سکتا ہوں اور اسکی باتیں سن بھی سکتا ہوں۔ المِسْمَع والمُسْمَعَة جمع مَسَامِع: کان المُسْمِعَة: مُغنیہ، گانے والی کہتے ہیں۔ غَنَّتْهُمْ مُسْمِعَةٌ: مغنیہ نے انہیں گانا سنایا۔

۲۔ المُسْمِع (فا): قید المُسَمَّع (مفع): مقید۔

۳۔ السَمَعْمَع: شیطان، خبیث۔

۴۔ السَمْعَنَة والسِمْعَنَة: بہت سننے والی۔

○ سَمِعَ - سَمْعًا و سَمَاعًا و سَمَاعَةً و مَسْمَعًا ہ / ہ: کو سننا۔ ب: کے بارے میں سننا۔ ہ من: سے (کچھ) سننا۔ ہ من: (کے متعلق) جاننا، بتایا جانا (کی طرف سے) — الی/ل: (کچھ) بغور سننا، پر توجہ کرنا۔ من: (کو) بغور سننا، پر توجہ کرنا۔ ب: کے متعلق افواہ سننا، کو چھپ کر سننا۔ — ل / الی: پر کان دھرنا۔ لم یُسمَع به: ان سنا، ان دیکھا۔ اسْمَعَ ہ ہ: کو کچھ سنانا یا سننے دینا، کو کچھ سننے کے لئے دینا، کو کچھ یا اس کے بارے میں جاننے دینا، کو کسی چیز کے بارے میں بتانا۔ تَسَمَّعَ ل/ الی: (کسی شخص یا چیز) پر کان لگانا، دھرنا، کو غور سے سننا۔ تَسَمَّعَ: چھپ کر سن گن لینا، کن سوئیاں لینا۔ تَسَامَعَ به الناسُ: لوگوں نے اس کے متعلق ایک دوسرے سے سنا، اس کے بارے میں بات پھیل گئی، وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ اِسْتَمَعَ ہ: کچھ سننا، چھپ کر سننا،

اتفاق سے سن لینا۔ ـــ ل / الی / ہ / ہ: کو غور سے سننا، (کی) بات پر کان دھرنا، چھپ کر سن گن لینا، کن سوئیاں لینا۔ ـــ علی: کسی شخص کی چھاتی سے نکلنے والی آوازوں کو سن کر اس کے مرض کی تشخیص کرنا۔ شاهد السمع: گواہ (سنی سنائی بات کا) earwitness السمع و الطاعة و سمعاً و طاعة: میں نے سن لیا اور مطیع ہوا۔ آپ کے تصرف پر، بہت خوب۔ تحت سمعه: ان کے سنتے ہوئے۔ استرق السمع: چھپ کر سن گن لینا، کن سوئیاں لینا، مانیٹر کرنا۔ القی بسمعه الی: کی بات غور سے سننا۔ مَتَسمعَة: کان کھڑے کرنا۔ سَمعِی: سمعی، سننے والا، آواز کا، سماعی، روایتی۔ علم السمعیات: علم آواز acousties
سُمعَة: شہرت (عموماً اچھی) نیک نامی آبرو وقعت عزت، بڑی یا مسلمہ حیثیت، نام۔ حمید (حسن) السُمعة: معزز، محترم۔ ردیٔ (سَیِّء) السُمعَة: بدنام، بے وقار، بے عزت، مشتبہ چال چلن کا۔
سماع: آواز کا امتحان (Audition) سماعیات علم آواز۔ سمّاعة: دروازے کا کھٹکا۔ مِسمع جمع مَسامِع: کان، سٹیتھوسکوپ (ٹیلیفون) ریسیور۔ مَسمُوع: اتنا بلند کہ سنا جا سکے گوش رس قابل ادراک۔ مسموع الکلمة: جس کی کہی ہوئی بات وزن رکھتی ہو اور اس پر توجہ دی جاتی ہو۔ المستمعون: سامعین، حاضرین۔

سمغ: ا۔ اسمَغَدَّ اسمِغداداً الجرحُ: زخم کا سوجنا، متورم ہونا۔ اسمَغَدَّ: بھی اسی معنی میں لیا جاتا ہے۔ المُسمَغِدّ (فا): پھولا ہوا، بہت زور سے پکڑنے والا (جس کی وجہ سے اسکی انگلیاں پھول جائیں)

سمق: ا۔ سَمَقَ - سُمقاً و سُموقاً النبتُ: پودہ کا بڑھنا، لمبا ہونا۔ صفت سامِق و سَمِق السمِق من الرجال: لمبا آدمی۔ السُماق: خالص کہتے ہیں۔ احبك حُبّاً سُماقاً: میں تجھ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ السُمّاق (ن): ایک درخت جس کے بیج گرم مسالہ کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں، ورپتے رنگنے کے کام آتے ہیں۔ السَمِیق: بیل جوتنے کا جوا۔
۲۔ اسمقَرَّ اسمِقراراً الیومُ: دن کا سخت گرم ہونا۔

سمك: ا۔ سَمَكَ - سَمكاً الشيءَ: کو بلند کرنا کہتے ہیں۔ سمك اللّٰهُ السماءَ: اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان بلند کیا۔ ـــ سَمكاً و سُموكاً و سَمُكَ - سَماكَةً: بلند ہونا۔ تسمَّكَ: بلند ہونا، اونچا ہونا۔ السَمك: (مص) چھت، چھت گیری، ہر اونچی اور موٹی کا قد کاٹھ۔ السِماك جمع سُمُك: چیز کے اٹھانے کا اوزار۔ ـــ من الزّوَر: ہنسلی سے ملی ہوئی پسلی۔ السماکان: دو ستارے، ایک کو سماك رامح: اور دوسرے کو سماك أعزَل کہتے ہیں۔ السمیك: لمبا السمیکات: چھاتی کے بالائی حصہ کے اردگرد گوشت کے اعضاء۔ (عام بول چال)۔ المِسماك: خیمہ وغیرہ اٹھانے کی لکڑی۔ مِسماك الکرم: انگور کی بیلیں اٹھانے کی لکڑی۔ المَسمُوك: لمبا۔ ـــ من الخیل: مضبوط گھوڑا۔ المُسمَکات و المَسمُوکات: آسمان (جمع)
۲۔ سَمُكَ الشيءُ: چیز کو موٹا دبیز کرنا۔ استَسمَكَ الثیابَ: کپڑوں میں سے موٹا کپڑا اختیار کرنا۔ السَمیك من الثیاب و غیرها: موٹا دبیز کپڑا وغیرہ۔
۳۔ استَسمَكَ: مچھلی کھانا۔ السَمك جمع سِماك و سُموك و أسماك واحد سَمَكة: (ح) مچھلی۔ سمك الکَراکِيّ (ح): مچھلی جو ہر قسم کی مچھلیاں کھا لیتی ہے۔ سمك موسیٰ (ح): اس مچھلی کا گوشت لذت دار ہوتا ہے۔ السَمّاك: مچھلی فروش۔
۴۔ السُمیکاء (ح) دیمک لکڑی کھانے والا کیڑا۔

سمل: ا۔ سَمَلَ - سَملاً الحوضَ: حوض کو باقی ماندہ تھوڑے سے پانی سے صاف کرنا، یعنی یہ پانی نکال کر۔ ـــ الدّلوَ: ڈول کا تھوڑا پانی نکالا جانا۔ سمَّلَ الحوضَ: حوض سے تھوڑا پانی نکالا جانا۔ ـــ الحوضَ: حوض سے تھوڑا پانی نکال کر اسے صاف کرنا۔ تَسمَّلَ: پانی تھوڑا پینا۔ النبیذَ: نبیذ بار بار پینا۔ السَمِیل: حوض میں بچا ہوا پانی۔ السَمال: جوہڑوں کا کیڑا۔ السُملة و السَمَلة جمع سَمَل و أسمال و سِمال و سُمول: تھوڑا پانی۔ السُملان من الماء و النبیذ: پانی یا نبیذ کا بچا کچھا۔ السوملة: چھوٹی پیالی۔
۲۔ سَمَلَ - سَملاً عینه: آنکھ پھوڑنا۔ اِستَمَلَ عینه: آنکھ پھوڑنا۔ السَمّال: آنکھیں پھوڑنے والا۔
۳۔ سَمَلَ - سُمُولاً و سُمُولةً و سَمُلَ - سَمالةً الثوبُ: کپڑے کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ سَمِلٌ: پرانا، بوسیدہ کپڑا۔ سَمَّلَ فلاناً بالقول: سے نرمی سے بات کرنا۔ أسمَلَ الثوبُ: کپڑے کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ السَمِل جمع أسمال: پرانا بوسیدہ کپڑا۔ ثوبٌ سَمَلةٌ و سَمُولٌ و سَمِیلٌ: پرانا اور بوسیدہ کپڑا۔ السَومَل: پرانا اور بوسیدہ کپڑا۔
۴۔ سَمَلَ - سَملاً بینهم: کے درمیان صلح کرانا۔ أسمَلَ بینهم: کے درمیان صلح کرانا۔
۵۔ السَموَّل: نرم مٹی کی زمین، فراخ زمین۔
۶۔ سَملَجَ اللبَنَ في حلقه: دودھ کو آسانی سے پینا۔ السَملَج و السُمالِج: میٹھا دودھ۔
۷۔ السَملَع: (ح) بھیڑیا، خبیث۔ رجلٌ سَملَعٌ: خبیث آدمی۔
۸۔ السَملَق: ہموار بنجر زمین۔
○ سَمَلَ - سُمُولاً و سُمُولةً: (لباس) کا پھٹا پرانا ہونا، چیتھڑوں میں ہونا۔ شرب الکاس حتی السَمَل: پیالہ تلچھٹ تک پی جانا۔

سمن: ا۔ سَمِنَ - سِمَناً و سَمانةً: موٹا اور فربہ ہونا صفت سامِن و سمین جمع سِمان۔ سَمَنَ - سَمناً الطعامَ: کھانے میں گھی ڈالنا۔ سمَّنَ الطعامَ: کھانے میں گھی ڈالنا۔ ہُ: کو موٹا کرنا۔ اس سے ضرب المثل ہے۔ سَمِّن کلبك یأکُلك: اپنے کتے کو موٹا کرو گے تو وہ تمہیں کھائے گا۔ القومَ: کو گھی کا توشہ دینا۔ ـ له: کو بہت بخشش دینا۔ أسمَنَ: موٹا اور فربہ ہونا، بہت گھی والا ہونا، موٹے جانوروں والا ہونا، موٹا جانور خریدنا، موٹے جانور کا مالک ہونا اور اس کو ہبہ کرنا۔ ـــ الفرسَ: گھوڑے کو موٹا اور فربہ کرنا۔ ـــ الخبزَ: روٹی کو گھی میں تر کرنا۔ الرجُلَ: کو گھی کھلانا۔ تسَمَّنَ: موٹا ہونا۔ استَسمَنَ: گھی مانگنا۔ ہُ: کو موٹا پانا یا سمجھنا۔ اس سے ضرب المثل ہے۔ استَسمَنتَ ذا وَرَم: تم نے سوجے کو موٹا سمجھ لیا، یعنی ظاہری حالت سے دھوکا کھا گئے۔ السامِن (فا): بہت گھی والا (باب تامر و لابن سے ہے) السَّمن: (مص) جمع أسمُن و سُمُون و سُمنان: گھی السَمنَة: گھی۔ السُمنَة: موٹا کرنے کی دوا۔ السَمّان: گھی فروش۔ السَمِینُ: موٹا، فربہ۔ من الکلام: پاکیزہ گفتگو۔ السَمِینَة جمع سِمان: سمین کا مونث۔ ارضٌ سمینةٌ: وہ زمین جس میں پتھر نہ ہو، صرف مٹی ہی مٹی ہو۔ المُسمَن: خلقی طور پر موٹا۔ طعامٌ مَسمَنَةٌ: موٹا اور فربہ کرنے والا کھانا۔
۲۔ تَسمَّنَ: شرافت و بھلائی کا دعوی کرنا جو اس میں نہ پائی جائے۔
۳۔ السُمنَة جمع سُمّان و سُمنان: (ح) ایک پرندہ جس کے لذیذ گوشت کی وجہ سے اسے شکار کیا جاتا ہے۔ عوام اسے سُمنَة کہتے ہیں۔ اس کی جمع سُمَن اور سَمامِن آتی ہے۔ السُمانی جمع سُمانیات: واحد سُماناة (ح) بٹیر۔
۴۔ السَمنجُونِي: آسمانی رنگ کا (فارسی لفظ ہے)۔
۵۔ السَمَند و السَمَندَل و السَندَل: (ح) ایک پرندہ جو ہندوستان میں بکثرت پایا جاتا ہے۔
۶۔ السَمَندَر: ایک جانور جو آگ بجھانے کا مادہ خارج

کرتا ہے اور لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آگ میں نہیں جلتا (یونانی لفظ)

۞ سَمِنَ ۔ یَسمَنُ سِمَنًا و سمانةً : موٹا، فربہ، لحیم شحیم، ٹھگنا، جسیم، گول مٹول ہونا یا بن جانا۔ سَمَّنَ و أَسمَنَ ہٗ : کو موٹا، فربہ، گول مٹول کرنا۔ سِمَن : موٹاپن، فربہی، جسیم، لحیم شحیم، ٹھگنا یا گول مٹول ہونا۔ سِمنَۃ : مندرجہ بالا معانی۔ سَمَانَۃ الرجل : پنڈلی۔ مُسَمَّن : موٹا، فربہ۔

سمہ : ا۔ سَمَہَ ۔ سُمُوھًا : حیران ہونا۔ الفرسُ : گھوڑے کا دوڑنے میں تھکان کو نہ جاننا۔ سَمَّہَ الابلَ : اونٹوں کو بیکار چھوڑ دینا صفت مفعولی۔ سُمَّہ ۔ السامہ ج سُمَّہ : حیران۔ السُّمَّہی : کرہ ہوائی، جالا جو آنکھوں کو روشنی میں دھاگوں کی طرح نظر آتا ہے۔ والسُّمَّۃُ والسُّمَّیْہی والسُّمَّیْہی والسُّمَیْہاء والسُّمَیْہاء : ڈھکوسلے۔ رجل مُسَمَّہُ العقلِ : وہ آدمی جس کی عقل جاتی رہی ہو۔

۲۔ سَمهَجَ کلامَہٗ : بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا۔ الحبلَ : رسی کو مضبوط بٹنا۔ الشیءَ : چیز کو بھیجنا۔ الدراھمَ : کو رواج دینا۔ الیمینَ : سخت قسم کھانا۔ السِّمهاج : جھوٹ۔

۳۔ اسْمَھَدَّ السنامُ : کوہان کا موٹا یا بڑا ہونا۔ السَّمھد : خشک سخت چیز۔ والسَّمَھْدَد : موٹا جسیم اونٹ، بڑے جسم کا اونٹ۔

۴۔ اسْمَھَرَّ : سخت و مضبوط ہونا، نیزہ کی طرح سیدھا ہونا۔ الظلامُ : بہت اندھیرا، تاریکی کا تہہ بہ تہہ ہونا۔ السَّمهری : سخت نیزہ۔ رمحٌ سَمهریٌّ و رماح سَمهریّۃٌ : سخت نیزہ سخت نیزے۔ قدٌّ سَمهریٌّ : معتدل قد۔

۞ سَمْھَری : لمبا اور ہٹا کٹا، بہت ہی لمبا، بڑے قد و قامت والا۔ سمھری القامۃ : یہی معنی۔

سما : ا۔ سَمَا ۔ سُمُوًّا : بلند ہونا اونچا ہونا کہتے ہیں۔ نفسہ تسمو الی معالی الأمور : اس کا نفس بلند امور کی طرف مائل ہے۔ البصرُ : نظر (کا) اٹھنا کہتے ہیں۔ سمت الیہ بصری وسما الیہ بصری : میری نگاہ اس کی طرف اٹھی۔ [illegible] بہ : کو بلند کرنا۔ سمّی الشیء : چیز کو بلند کرنا۔ [illegible] من بلد الی بلد : کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا، پہنچانا۔ سامی مُساماۃ الرجلَ : کسی سے فخر میں مقابلہ کرنا۔ فلانٌ لا یُسامٰی : فلاں سے فخر میں مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ تسمّی الی اوبالقوم : سے منسوب ہونا۔ تسامی تسامیا القوم : ایک دوسرے کے مقابل فخر کرنا۔ علی الخیل : گھوڑوں پر سوار ہونا۔ استَمٰی استِماءً ہٗ : سے ملنے جانا، کسی میں خیر و بھلائی معلوم کرنا۔ السّامی جمع سامُون و سُماۃ م سامیۃ جمع سامیات و سَوَامٍ (فا) : بلند و اونچا، شان، شوکت والا کہتے ہیں۔ رددتُ من سامی طرفہ : میں نے اسے اس کا نفس گھٹا کر دکھایا۔ السَّمَا : اچھی شہرت۔ شاع سُمَاءُہٗ : اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ السَّمَا جمع سَمَاوات و سَمَوٰات : (لکھنے میں الف حذف کر کے، نہ کہ بولنے میں) و سُمِیّ و سِمِیّ و أَسْمِیَۃ : آسمان، زمین کو گھیرنے والی وسیع فضا۔ ہر وہ چیز جو سر کے اوپر ہو، گھر کا چھجا، ہر چیز کی چھت، گھوڑے کی پیٹھ، بارش، بادل، گھاس، نیک روحوں کا مسکن۔ سماءُ السماوات (فلک) : فلک اعظم، بلند ترین آسمان۔ سماء الرویۃ (فلک) : فلک بروج۔ السماوۃ : گھر کا چھجا۔ السَّمِیّ : بمعنی سامی۔

۲۔ سَمَا ۔ سُمُوًّا الرجلَ زیدًا وبزید : کا نام زید رکھنا۔ سَمَّی الرجلَ زیدًا و بزید : کا نام زید رکھنا۔ الشارعَ فی العمل : کام کے شروع میں اللہ کا نام لینا۔ سَمَّیتُ لھم الرجلَ : میں نے انہیں آدمی کا نام بتایا۔ أَسمَی الرجلَ زیدًا و بزید : کا نام زید رکھنا۔ تَسَمَّی : نام پانا۔ تَسامَی تَسامیًا القومُ : ایک دوسرے کو نام لے کر پکارنا۔ اِستَمَی استماءَ الرجلَ : کا نام دریافت کرنا۔ سَمَاوَۃُ کلِّ شیءٍ : ہر چیز کا بُعد یا ڈھانچہ۔ الاِسْمُ والأُسمُ جمع أَسْماء و أَسامٍ و أَسامِیّ و أَسْماوات : نام۔ اسم کا ہمزہ وصلی بسملہ میں کتابت سے ساقط ہو جاتا ہے۔ نصاریٰ کے ہاں بسملہ : بسم الآب والابن والروح القدس ہے جبکہ مسلمانوں کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اسمُ الجلالۃ : باری تعالیٰ کا نام۔ السِّمُ والسِّمُ والسُّمُ : بمعنی اسم کہتے ہیں۔ ھذا سِمُہٗ : یہ اس کا نام ہے (یعنی ھذا اسمہ کے معنی ہیں)

۞ اسم الاشارۃ : اسم اشارہ اسم التصغیر : اسم مصغر۔ سُمَیُّ اِسمًا : برائے نام اسمیٌّ : نام کا، محض نام کا۔ اسم التالیف و اسم الکنایۃ : قلمی نام، پین نیم اِسمٌ تجاریٌّ : فرم کا نام۔ اسم علم : اسم معرف۔ اسم الجمع : اسم جمع، اسم الجنس الجمعی : اسم جنس، جیسے حَمَام : کبوتر جنس کبوتر۔ اسم المعنی : خیالی، ذہنی، مجرد نام۔ اسم العین : اسم محسوس، کسی مادی، شئے کا نام۔ اسم التفضیل : اسم تفضیل۔ اسم الفعل : مصدری اسم (Gerund) اسم الفاعل، فاعل کا نام۔ اسم المفعول : مفعول کا نام۔ اسم المرۃ : اسم مرۃ، باسم فلان کے نام پر، کی خاطر، کی طرف سے۔ بسم اللّٰہ : اللہ کے نام سے۔ تُقَدَّمُ الطلبات باسم رئیس الجمعیۃ : درخواستیں سوسائٹی کے صدر کے نام معنوں کی جائیں گی۔ جملۃٌ اسمیۃ : وہ جملہ جس میں اسم پہلے مذکور ہو قیمۃٌ اسمیّۃٌ : برائے نام قیمت لکھی ہوئی قیمت۔ السُّمومُ البیضاء : سفید نشیات جیسے کوکین، ہیروین وغیرہ۔ سَموم (م) جمع سمائم : گرم ہوا، لو، گرم ریت کا طوفان۔ مسموم : زہریلا۔

۲۔ مُسِمّ : زہریلا۔ الاسمیّۃ : فلاسفہ کا مدرسہ فکر کہ اجناس و انواع کی ذاتی طور پر کوئی حقیقت یا وجود نہیں۔ (nominalism) سَمِیُّکَ : وہ شخص جس کا نام بھی وہی ہو جو تمہارا ہے، تمہارا ہم نام، تمہارا نظیر۔ سَمِیّ : ہم نام، نظیر۔ المُسَمَّوِیّ : نام کا، نام سے نسبت۔ المُسَمّٰی (مفع) : نام رکھا ہوا، معلوم و معین کہتے ہیں۔ ھو من مُسَمّی قومہ و من مُسَمّاتھم : وہ اپنی قوم کا ایک چیدہ شخص ہے۔

۳۔ سما ۔ سُمُوًّا القومُ : لوگوں کا شکار کے لئے جانا۔ استَمَی استماءً الصائدُ : شکار کا شکاری جرابیں پہننا، شکار کرنا۔ السّامی جمع سُماۃ : شکاری جس نے شکاری جرابیں پہن رکھی ہوں۔ المِسماۃ : شکاری کی اونی جرابیں۔

سن : ا۔ سَنَّ ۔ سَنًّا السکینَ : چھری تیز کرنا، چھری کی دھار تیز کرنا کہتے ہیں۔ ھذا مایسنُّك علی الطعام : یہ چیز تم میں کھانے کی اشتہار پیدا کرے گی، بھوک لگائے گی۔ الحمضُ یَسُنُّ الابل علی الخُلّۃ : نمکین و تلخ پودا اونٹوں کو تقویت دیتا ہے جیسے دندانہ چھری کی دھار کو تیز کرتا ہے۔ الرمحَ : نیزہ میں پھل لگانا۔ الرجلَ : کو نیزہ مارنا۔ الطینَ : مٹی سے برتن بنانا۔ الشیءَ : چیز کی تصویر بنانا۔ الامیرُ رعیّتہ : امیر کا اچھی طرح اپنی رعیت کا انتظام کرنا۔ سُنَّت الارضُ : زمین کی سبزی کا چر لیا جانا۔ سَنَّنَ السکینَ : چھری کو تیز کرنا اور صیقل کرنا۔ الرمحَ : نیزہ میں پھل لگانا۔ الرمحَ الیہ : کی طرف نیزہ سیدھا کرنا۔ القولَ : بات کو سجانا سنوارنا۔ أَسَنَّ الرمحَ : نیزہ کو پھل لگانا۔ السِّنّ جمع أَسنان و أَسِنّۃ و أُسُنّ : قلم میں تراشنے کی جگہ۔ گھاس اسی سے ہے۔ اعطوا السنَّ حظھا من السِّنّ : دانتوں والے جانوروں کو گھاس میں سے ان کا حصہ دو۔ السِّنّۃ : دو

طرفی کلہاڑی۔ السُّنَّۃ جمع سُنَن: چہرہ یا اسکی گولائی۔
السِّنَان (ج) أَسِنَّۃ: نیزہ کا پھل۔ چاقو چھری وغیرہ
تیز کرنے کی سان کہتے ہیں۔ سَنَّ سِکِّینَہ بالسنان:
(اس نے سان پر اپنی چھری تیز کی)۔ السَّنِین م
سَنِینَۃ: سان پر سے گرا ہوا برادہ، سان پر تیز کیا ہوا
(چاقو چھری وغیرہ) وہ زمین جس کی گھاس چر لی گئی
ہو۔ جمع سَنَائِن: لمبا اونچا ریت کا ٹیلہ۔ المِسَنّ:
سان۔ مَرْمَرٌ مَسْنُونٌ: نرم صیقل کیا ہوا مرمر۔ رجلٌ
مسنون الوجہ: کتابی چمکیلے چہرے والا، لمبے
چہرے اور اونچی ناک والا۔

۲۔ سَنَّ ۔ُ سَنًّا الابلَ: اونٹ کو تیز ہانکنا۔ ــ الطریقۃَ:
طریقہ اختیار کرنا، راستہ پر چلنا۔ ــ علیھم السُّنَّۃَ:
کے لئے طریقہ مقرر کرنا کہتے ہیں۔ ــ سَنَّ فلانٌ
طریقاً من الخیر: فلاں نے نیکی کے ایک ایسے معاملہ
کا آغاز کیا جسے اس کی قوم نہیں جانتی تھی۔ تَسَنَّنَ
بسُنَّتِہ: کے طریقہ پر عمل کرنا۔ فی عدوہ: اپنی راہ
لینا۔ اِسْتَنَّ الطریقُ: راستہ کا واضح ہونا۔ استن
بسُنَّتِہ: کے طریقے پر عمل کرنا۔ استن بسیرۃ فلان:
فلاں کی سیرت کی پیروی کرنا۔ ــ الفرسُ: گھوڑے
کا آگے پیچھے دوڑنا۔ کہتے ہیں۔ استن بہ الھوی
حیث اراد: اس کو اسکی خواہش ہر طرف لے گئی۔ ا
سْتَسَنَّ الطریقۃَ: طریقہ اختیار کرنا، راستہ پر چلنا۔
ــ الطریقُ: راستہ کا آمدورفت والا ہونا۔ ــ بالشی
ء: کے پیچھے چلنا۔ السَّنَن: طریقہ۔ استقام فلانٌ
علی سنن واحد: فلاں ایک ہی طریقہ پر جمار ہا۔
نیز کہتے ہیں۔ امض علی سَنَنِكَ: تم اپنے طریقے
پر چلتے رہو، اپنی راہ لو۔ مَرَّ السھم فی سننہ: تیر
اپنے راستہ پر گیا، ادھر ادھر نہیں ہوا۔ ــ والسِّنَن و
السُّنَن والسُّنَن من الطریق: کشادہ راستہ، راستہ کا
رخ، بڑا راستہ، بڑی سڑک۔ السُّنَّۃ جمع سُنَن:
سیرت، طریقہ، طبیعت، شریعت۔ اھل السنۃ: وہ
لوگ جو خلافت حضرت ابوبکرؓ (وعمرؓ وعثمانؓ) کے قائل
ہیں جبکہ اھل الشیعہ یا متاولہ کا عقیدہ ہے کہ خلافت
کے حقدار حضرت حضرت علیؓ تھے۔ السُّنَّۃ التَّصْوِیرِیَّۃ
(ف ج): فن تصویر میں ایک متوارث مکتب فکر۔
السنۃ: سن کا اسم مرۃ۔ السُّنِّیَّۃ: (واحد سُنّی)
مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ۔ سنت کی جانب منسوب۔
مشہور ہے کہ وہ شیعیۃ کا مخالف ہے۔ السَّنِینَۃ جمع
سَنَائِن: ایک ہی رخ پر چلنے والی ہوا۔ مُسْتَنُّ
الطریقِ: واضح راستہ۔ طریق مُسْتَنِینٌ و
مُسْتَنَنٌ: آمدورفت والی سڑک۔

۳۔ سَنَّ ۔ُ سَنًّا الاسنانَ: دانتوں میں مسواک کرنا۔
الرجلَ: کو دانتوں سے کاٹنا کے دانت توڑنا۔ سَنَّنَ
الأسنانَ: دانتوں میں مسواک کرنا۔ اسنَّ الصبی:
بچہ کے دانت نکلنا۔ ــ الرجلُ: آدمی کا بوڑھا ہونا۔
اللّٰہ سِنَّہٗ: اللہ تعالیٰ کا کسی کے دانت اگانا۔ اسْتَنَّ
الرجلُ: خلال کر کے دانتوں کو صاف کرنا۔ اسْتَسَنَّ:
عمر رسیدہ ہونا۔ السِّنّ جمع أَسنان و أَسِنَّۃ و أَسُنّ:
دانت (مونث) درانتی یا کنگھی وغیرہ کا دندانہ، لہسن
کے سر کا دانہ، پیٹھ کے منکوں کا کنارہ۔ جمع اُسنان:
عمر (مونث) کہتے ہیں۔ طعَن و طُعِنَ فی سِنِّہ:
بوڑھا ہونا، بہت بوڑھا ہونا کہتے ہیں۔ ھو حدیثُ
السن: وہ نو عمر ہے۔ ھو کبیر السِّن: وہ بڑی عمر کا
ہے۔ کَبُرت سِنُّہ: اس کی عمر زیادہ ہو گئی۔ ھو سِنُّ
فلان: وہ فلاں کا ہم عمر ہے۔ ولہ ابنٌ سِنُّ ابنكَ
او لاءٌ اسنانُ بَنِیك: اس کا بیٹا تمہارے بیٹے کا ہم عمر
ہے اس کے بچے تمہارے بچوں کے ہم عمر ہیں۔ سِنّۃ
سن الثوم: لہسن کی تری۔ السَّنُون: منجن۔ سَنِینُ
المرء م سنینۃ: جو اس کے ساتھ پیدا ہوا ہو۔ المُسِنّ
من الدواب جمع مَسَانّ: بوڑھا جانور۔

۴۔ سَنَّ ۔ُ سَنًّا العقدۃَ: گرہ کھولنا۔ الامرَ: معاملہ بیان
کرنا، آسان کرنا۔ جاری کرنا۔

۵۔ سَنَّ ۔ُ سَنًّا الماءَ والترابَ: آہستہ آہستہ پانی یا مٹی
گرانا، ڈالنا۔ ــ ت العینُ الدمعَ: آنکھ کا آنسو
بہانا۔ اَسَنَّ الماءَ: پانی گرانا، بہانا۔ اسْتَنَّ الماءُ:
پانی کا گرنا۔ اسْتَسَنَّ تِ العینُ: آنکھ کے آنسو بہنا۔
حَمَأٌ مَسْنُون: بدبو دار کیچڑ۔

۶۔ سَنَّ ۔َ سَنًّا الرجُلَ: کی بہت تعریف کرنا۔

۷۔ اسْتَنَّ السرابُ: سراب کا چمکنا۔ اسْتَسَنَّ بسیفہ:
تلوار کو حرکت دینا۔

۸۔ السَّنَّۃ: (ح) ریچھ کی مادہ، چیتے کی مادہ (ریچھنی،
چیتنی)

۹۔ سَنْسَنَ ت الریحُ: ٹھنڈی ہوا چلنا۔ السِّنْسِن
(ج) سَنَاسِن: پیاس (ع ا) سینہ کی ہڈیوں کا سرا۔
پیٹھ کے منکوں کا کنارہ کہتے ہیں۔ جاءت الریحُ
سناسِن: ہوا ایک ہی طرح آئی۔ السِّنْسِنۃ (ع ا):
پیٹھ کے منکوں کا کنارہ۔

سنب: ۱۔ السَّنَاب: سخت برائی۔ السِّنَاب والسِّنَابۃ:
لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔ السَّنِب: بہت دوڑنے والا۔
السَّنب والسَّنبۃ والسَّنبَۃ: زمانہ کا ایک حصہ۔
السنوب والسَّناب والسِّناب والسَّنُّوب:
غضبناک، بہت شریر، چغلخور، جھوٹا۔ السُّنُوبِیّ: جدت
پرستانہ۔ السُّنُوبِیَّۃ: جدت پرستی۔

○ سَنَّ قانوناً: قانون وضع کرنا، منظور کرنا۔ اسْتَنَّ سنۃ
محمد: نبی کریم ﷺ کی سنت کی اتباع کرنا۔ سِن
(م) جمع اَسنان و اَسِنَّۃ و اَسُن: دندانہ (کنگھی،
آری وغیرہ کا بھی) (چٹان وغیرہ کی) نوک، کانٹا،
شاخ، (ہاتھی کا) دانت (سانپ کا زہر والا) دانت،
ناب، نوک، نب (قلم کا) عمر (کسی شخص کی) سِنُّ
الرُّشد: بلوغت۔ سِنُّ الفیل: ہاتھی دانت، عاج۔
تقدمت بہ السن: عمر زیادہ ہو جانا، عمر رسیدہ ہونا۔
سَنَن: رواج، دستور، عادت، قاعدہ۔ اَسَنّ: زیادہ عمر
کا۔ مِسَنّ جمع مسانات و مَسَان: سان۔ سنگ
فسان۔ grindstone Whet-stone، استرا
لگانے کا پٹہ یا چمڑا razor strop۔ مسنون:
سنت کا مقرر کردہ، قانون یا رواج کا منظور کردہ، تیز کیا
ہوا، گاؤدم بنایا ہوا، نوکدار، نوکیلا، متعفن، بدبو دار،
سڑاندوالا، (دلدل) مُسَنَّنٌ: دانے دار، دندانے
پڑے ہوئے نوکیلے کونوں والا، نوکیلا، تیز، تیکھے نقوش
والی (شکل)۔

۲۔ السُّنْبَاذَج: سان کا پتھر (فارسی لفظ)

۳۔ السَّنْبُوسَق و السَّنْبُوسَك (ط): سموسہ۔

۴۔ السُّنْبُوق: ڈونگا، چھوٹی کشتی۔ عام لوگ اسے
سُنْبُكْ کہتے ہیں (فارسی)

۵۔ السنبك جمع سَنَابِك: سُم، کھر کا کنارہ، ہر چیز کا
شروع، سخت اور بنجر زمین۔ ــ من السیف: تلوار
کے منقش قبضہ کا کنارہ۔ من بیضۃ الحدید: خود کی
چوٹی۔ من المطر: بارش کا شروع کہتے ہیں۔ طلب
الرزق فی سنابك الارض: اس نے روزی کی
تلاش زمین کے اطراف میں کی (فارسی)۔

○ سُنْبُك جمع سَنَابِك و سنبوك جمع سَنَابِیك: بجرا،
ہلکی کشتی، کشتی۔ سُنْبُك جمع سَنَابِك: سُم، کھر کا پنجہ،
کھر، ستاری، ستالی، بیج، چھیدنے کا آلہ۔

۶۔ سَنْبَلَ الزرعُ: کھیتی کا بالیاں نکالنا۔ الرجُلُ
ثوبَہ: کپڑا گھسیٹ کر چلنا۔ السُّنْبُل واحد
سُنْبُلَۃ جمع سَنَابِل و سنبلات من الزرع کالبُرّ
و الشعیر: گیہوں یا جو کی بالی۔ ایک خوشبودار گھاس۔
بال، بالی۔ السنبل الرومی: ایک خوشبودار بوٹی، آسمان
کے ایک برج کا نام۔

سنت: ۱۔ اَسْنَتَ القومُ: قوم کا قحط زدہ ہونا، خشک سالی
سے دوچار ہونا۔ سانتوا الأرضَ: نباتات تلاش
کرنا۔ عامٌ سَنِتٌ: قحط کا سال۔ رجُل سَنِتٌ:
بے خیر آدمی۔ عامٌ سَنِیتٌ و مُسْنِتٌ: قحط کا
سال۔ المُسْنِت: وہ محتاج و مسکین جس کے پاس
کچھ نہ ہو۔

۲۔سَنَّتَ القِدرَ: ہانڈی میں زیرہ ڈالنا۔ المُسَنَّوت والسِنَّوت: زیرہ بعض کے نزدیک شہد، پنیر۔

سنج: ا۔سَنَجَ -سُنُجًا الثوبَ: کپڑے کو اس کے رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں رنگنا۔ السِنَاج: چراغ کے دھوئیں کا دیوار وغیرہ پر نشان۔ ــ السَنِیج: چراغ السُنجَة: سفید و سیاہ رنگ۔ ثوبٌ مُسَنَّج: دھاریدار سفید و سیاہ رنگ کا کپڑا سفید و سیاہ دھاریوں والا کپڑا۔

۲۔سَنجَةُ المِیزَان جمع سَنجات: باٹ (فارسی)

۳۔السِنجاب والسُنجَاب (ج) گلہری

۴۔سِنجَق جمع سَنَاجِق: جھنڈا (فارسی)

سنح: ا۔سَنَحَ -سَنحًا و سُنُحًا و سُنُوحًا الامرُ او الرائ: کوئی کام پیش آنا یا کوئی رائے سوجھنا۔ لی الشِعرُ: شعر آسان ہونا۔ (میرے لئے) ــــ بکذا: کو اشارہ سے سمجھانا۔ بہ و علیہ: کو تنگی میں ڈالنا، تکلیف پہنچانا۔ الرجُلَ عن رأیہ: کو اسکی رائے سے پھیر دینا۔

۲۔سَنَحَ -سُنُوحًا و سَانَحَ سِناحًا و مُسَانَحَةً الطیرُ او الظبیُ: پرندہ یا ہرن کا بائیں جانب سے دائیں جانب گزرنا۔ تَسَنَّحَ من الریح: ہوا کی طرف پیٹھ پھیرنا۔ ــــ واستَسنَحَ ہُ عن کذا: کو کسی بارے میں کھوج کرنے کے لئے کہنا۔ السُنح: برکت السَانِح (فا) جمع سوانح: دائیں طرف سے آنے والا۔ اس کے مقابل بارح ہے جو بائیں جانب سے آئے۔ عرب سانح سے نیک فال اور بارح سے بدشگون لیا کرتے تھے۔ اسی سے ضرب المثل ہے: مَنْ لی بالسانح بعد البارح: میرے لئے منحوس کے بعد مبارک کا کون ضامن ہوگا۔ السنیح جمع سُنُح: بمعنی سانح۔

۳۔السُنح من الطریق: راستہ کا درمیان۔ السَنِیح جمع سُنُح: موتی، زیور۔

۴۔السَنحَنح: رات کو نہ سونے والا۔

○ سنت: سنیت Cent سنتمتر جمع سنتمترات: سینٹی میٹر۔ سَنجہ جمع سِنَج و سَنجات: باٹ۔ سِنجَـہ جمع سِنَج: سنگین (ترکی لفظ ہے)

سِنجابی: خاکستری رنگ کا۔ سِنجاب: خاکستری رنگ کی گلہری، خاکستری رنگ کی گلہری کی پوستین، پشم۔ سُنحًا و سنوحًا لِ: کو خیال آنا (خیال وغیرہ کا) کسی کے دل میں آنا، کو میسر آنا (خصوصًا موقع کا) ل ب: کو کچھ دینا، بہم پہنچانا، مہیا کرنا۔ ہُ عن: کو (اسکی رائے) سے باز رہنے کے لئے کہنا، کو دلیل سے اسکی رائے کا مخالف کرنا۔

سَانِح جمع سَوَانِح: دیکھنے والے کی طرف اپنا دایاں رخ موڑنے والا (پرندہ، گیم) مبارک، مسعود، نیک شگون والا، مناسب، موافق (موقع)۔ سوانح: نیک شگون، مبارک مسعود علامات، خیالات، نظریات۔ سانحة: موقعہ، موقع۔

سنخ: ا۔سَنِخَ -سُنُوخًا فی العلم: علم میں پختہ ہونا۔ سَنِخَ -سَنَخًا الفمُ: منہ کا دانتوں سے خالی ہونا۔ تْ أسنانُہٗ: کے دانتوں کی جڑوں کا تباہ ہونا۔ السِنخ: جمع أسنَاخ و سُنُوخ: اصل۔ ــ من السِن: دانت اُگنے کی جگہ۔ سِنخ النصل: پھل کا تیر کے اندر داخل کیا ہوا حصہ۔ ــ الکلمة: کلمہ کا ماخذ۔

۲۔سَنِخَ -سَنَخًا من الطعام: بہت کھانا۔

۳۔سَنِخَ -سَنَخًا: بگڑنا، متغیر ہونا۔ صفت سَنِخٌ م سَنِخَة۔ السَنخَة و السَنَاخَة: بدبودار ہوا۔

۴۔سِنخُ الحُمیَّ: بخار کا جوش۔ السَنَخ: اونٹ

○ سِنخ جمع أسنَاخ و سُنُوخ: جڑ، اصل۔ سَنخ: (تیل کی) بدبو، پھپھوندی۔ سناخة: (تیل کی) بدبو، پھپھوندی۔ سَنِخ: بدبودار (تیل) پھپھوندی والا۔

سند: ا۔سَنَدَ -سُنُودًا و استَنَدَ و تساند الیہ: پر اعتماد رکھنا۔ سَنَّدَ الشیءَ: کو سہارا دینا، مضبوط کرنا۔ سَانَدَ مُسَانَدَةً و سِنادًا الرجُلَ: کی مدد کرنا۔ ہُ علی العمل: کو کام کا معاوضہ دینا۔ ــ ہُ الی الشیء: کو کسی چیز کا سہارا دینا، کسی چیز کو اس کا تکیہ یا سہارا بنانا۔ اَسنَدَہُ الی الشیء: چیز کو اس کا سہارا، تکیہ بنانا۔ الحدیثَ الی فلان: بات کو کس کی طرف منسوب کرنا۔ السَنَد جمع أسناد: سہارا۔ ــ ج سَنَدَات (ت): قرض کی دستاویز۔ ناقة سِنادٌ: لمبی ٹانگوں کی اونٹنی۔ طاقت ور، دبلی پتلی۔ الاسناد فی علم العربیة: عربی زبان کے علم میں دو کلموں کے درمیان نسبت تامہ واضح کرنا، مثلاً زیدٌ، قائمٌ: میں خبر کی نسبت مبتداء کی طرف کرنا۔ ــ جمع اسانید عند اھل المناظرة: مناظرہ میں حوالہ دینا۔ السَندَان جمع سنادین: آہرن، نہائی (فارسی) عام لوگوں کی زبان میں سِندَان السِندَان: بڑا مضبوط آدمی۔ السِندَانَة (ح): گدھی۔ المُسنَد من الحدیث جمع مَسَانِد و مَسَانید: جس کی سند اس کے قائل تک پہنچائی جائے۔ المُسنَدُ و المُسنَد جمع مَسَانِد: جس پر ٹیک لگائی جائے۔ المُسَانَدة فی الحرب (ا ع): یہ ہے کہ مثلاً توپ خانہ پیدل فوج کی مدد کرے۔ المُستَنَد: جس پر اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے۔ المتساندون: کہتے ہیں: خرج القومُ متساندین۔ لوگ مختلف جھنڈوں کے نیچے نکلے۔

۲۔سَنَدَ -سُنُودًا فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ لــلاربعین: چالیس کے پیٹے میں ہونا۔ اَسنَدَ فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ و ہُ فی الجبل: کو پہاڑ پر چڑھانا۔ فی العدو: دوڑنے میں کوشش کرنا۔ السَنَد جمع أَسنَاد: پہاڑ کا وہ حصہ جو دامن کوہ سے اونچا ہو۔

۳۔سَنَدَ -سُنُودًا ذَنَبُ الناقةِ: چلنے میں اونٹنی کی دم کا ادھر اُدھر چوتڑوں پر لگنا۔

۴۔سَنَّدَ: دھاریدار کپڑا پہننا۔ السَنَد: ایک قسم کی دھاریدار چادر۔

۵۔سَانَدَ مُسَانَدَةً و سِنادًا شِعرَہٗ رفی شعرہ: شعر میں مختلف ردیف ہونا۔ السِناد: قافیہ کا ہر عیب جو روی سے پہلے ہو۔

۶۔السنید: منہ بولا بیٹا۔ المُسنَد: زمانہ، منہ بولا بیٹا، بنو حمیر کا طرز تحریر۔

۷۔السِندَاو: سبک، جرات والا، پستہ قد، موٹے سر اور پتلے دبلے جسم والا۔ السِندَأوَة و السِندَاو: رومال جو پگڑی کو چکنائی سے محفوظ رکھنے کے لئے پگڑی کے نیچے رکھا جاتا ہے۔

۸۔سَندَرَ: جلدی کرنا۔ السندرة: (مص) سرعت، ایک قسم کا پیمانہ۔ کہتے ہیں۔ اکیلکمُ بالسیف کیلَ السندرہ: میں تمہیں وسیع پیمانے پر بری طرح قتل کروں گا۔ السَندَرِیّ: ایک بڑا پیمانہ، بہت دراز قد، مضبوط کمان، نیلے رنگ کا نیزہ (ح) شیر، تلوار وغیرہ کا پھل، بڑی آنکھوں والا، عمدہ روی۔ والسَندَر والسِندَر: دلیر۔

۹۔السِندرُوس: ایک قسم کا گوند، ایک معدنی چیز جو کہربا کے مشابہ ہوتی ہے (یونانی)

۱۰۔السُندُس: نہایت باریک و نفیس کپڑا (بروکیڈ یا ریشم کا) (فارسی)

۱۱۔السندل (ح): ایک پرندہ، جراب۔

۱۲۔السِندِیَان واحد سِندِیَانَة (ن): سدا بہار شاہ بلوط (فارسی)

○ أسنَدَ التھمة الی: پر شبہ کا اظہار کرنا۔ سندات خشبیة: لکڑی کی پتلی تختیاں، لکڑی کی آڑیں۔ سندات: دستاویزات، رقم کی رسید، ریکارڈ، سیکیورٹی،

باند، دستاویز، قرض، پرونوٹ۔ promissorry note سند شحن البضائع: جہاز پرلدنے والے مال کی فہرست Bill of lading رجال السند: اطلاع دینے والے، حکام، ارباب اختیار، ماخذ۔ اسانید: دستاویزی ثبوت، رقم کی رسیدیں، ریکارڈز، دستاویزات۔ استنادا الی: پرمبنی، کی بنیاد پر، کے باعث، کی سند سے، بسند۔ مُستَنِداً الی/علی: پراعتبار کرتے ہوئے۔ دار المستندات: دفتر خانہ، محافظ خانہ، پبلک ریکارڈ کا دفتر۔ مستندات الشحن: جہاز پرلدنے والے کی فہرستیں۔ bills of lading سِند: سندھ پاکستان کے ایک صوبہ کا نام، جس کا دارالحکومت کراچی ہے۔ السِندی: سندھی، سندھ کا رہنے والا، سندھی بولی بولنے والا، سندھی زبان کا۔

سنر: سنر- سَنَراً: بدخلق ہونا۔ السُنّار (ح) بلا۔ السِنَّور جمع سَنانیر (ح) بلا، سردار، دم کی جڑ (ع ا) گردن کا منکا۔ السَنَوَّر: لوہے کا ہر ایک ہتھیار، زرہ کے مانند چمڑے کا ایک لباس۔

○ سِنَّارة جمع سنانیر: ن کے شکار کا سامان، مچھلی پکڑنے کا آلہ، کانٹا۔ السنسکریتیة: سنسکرت (زبان)

سنط: سَنِطَ- سَناطةً وسَنِطَ- سَنَطاً: بے ریش ہونا یا ہلکی داڑھی والا ہونا۔ سِناط و سُناط و سَنوط جمع سُنُط و أسناط: بے ریش یا ہلکی داڑھی والا۔ السِنط: ہاتھ کا گٹا، پہنچا۔ سَنط استنبول: (ن) ایک درخت جس کا تنہ ملائم و نرم ہوتا ہے اور پھول گلابی رنگ کے ہوتے ہیں۔

۲- السِنطور و السِنطیر: ستار کی قسم کا ایک باجا جس کے تار تانبے کے ہوتے ہیں۔

۳- سَنطَلَ الرجلُ: سر جھکا کر چلنا۔ السَنطَلَة: (مص): لمبائی۔ السُنطالة: سر جھکا کے آہستہ چال۔ السِنطیل: لمبا دراز۔ المُسَنطَل (مفع): بہت ست چلنے والا جسے دیکھ کر یہ گمان ہو کہ اب گرا کہ گرا، بڑے پیٹ والا، بے ڈول۔

سنع: ا۔ سَنَعَ- وسَنُعَ- سَناعةً وسُنوعاً: خوبصورت نازک بدن ہونا۔ سَنیع م سَنیعة: خوبصورت نازک بدن۔ أسنَعَ الغلامُ: لڑکے کا دراز قامت وحسین ہونا۔ — الرجلُ: خوبصورت بچوں والا ہونا، ہاتھ کے گٹے میں درد ہونا۔ السِنع جمع سِنعَة و أسناع: گٹے کے مقام پر چیر، بریدگی، گٹے کا جوڑ۔ السَنع: خوبصورتی۔ الأسنَع م سَنعاء: دراز، لمبا، اونچا۔ کہتے ہیں۔ هذا أسنَع من ذاك: یہ اس سے بہتر اور لمبا ہے۔

۲- أسنَعَ الشيءَ: کو زیادہ کرنا۔

۳- السَنیعة جمع سَنائع: پہاڑی راستہ۔

۴- السُنعبة (ح): تیولا، اوپر کے ہونٹ کے اندر کی طرف وسط میں ابھرا ہوا گوشت۔

سنف: ا۔ سَنَفَ- سَنفاً البعیرَ: اونٹ پر تنگ کسنا۔ أسنَفَ الأمرَ: کسی امر کو مضبوط و مستحکم کرنا۔ — البعیرَ: اونٹ پر تنگ کسنا۔ سِناف البعیر جمع سُنُف و سُنُف و أسنِفَة: اونٹ کے مونڈھوں پر باندھا جانے والا کپڑا۔ السُنُفتان و السَنفتان: دو لکڑیاں جن میں کنویں کی چرخی باندھی جاتی ہے۔ السَنیف جمع سُنُف و سُنُف و أسنِفَة: اونٹ کے مونڈھوں پر باندھا جانے والا کپڑا، تنگ۔ المِسنَاف جمع مَسانیف: وہ اونٹ جو اپنے زین کو آگے پیچھے کرتا رہتا ہو جس کی وجہ سے تنگ کسنا پڑے۔

۲- سَنفَ- سُنفات الناقةُ: اونٹنی کا اونٹوں سے آگے نکلنا۔ أسنَفَ البعیرُ: اونٹ کا چلنے میں اپنی گردن کو آگے نکالنا۔ — تِ الناقةُ: اونٹنی کا اونٹوں سے آگے نکلنا۔ — تِ الریحُ: ہوا کا تیز چلنا۔ البرقُ: بجلی کا نزدیک معلوم ہونا۔

۳- السَنف جمع سُنوف: وہ شاخ جس پر پتے نہ ہوں، بے پتوں کی ٹہنی۔ دانوں سے خالی پھلی۔ پتا۔ السِنف: گیہوں اور جو میں پیدا ہونے والا تلخ دانہ، جماعت، صنف۔ السِنفَة جمع سِنف وجمع سِنفَة: پھلی ڈوڈا، مٹر وغیرہ کا چھلکا۔ السَنیف جمع سُنُف و سُنُف و أسنِفَة: فرش کی گوٹ۔ المُسنِفة من السنین: خشک سال۔ — من الاراضی: قحط زدہ زمین۔

سنق: ا۔ سَنِقَ- سَنَقاً: بدہضمی ہونا، بعض اس کو حیوانات کے لئے مخصوص کرتے ہیں اور انسان کے لئے تخم بولا جاتا ہے۔ أسنَقَهُ النعیمُ: آسودہ حالی کا کسی کو آرام طلب بنادینا۔

۲- السُنقُر و السُنقُور (ح): شکرے سے بڑا ایک شکاری پرندہ۔

سنك: السِنكسار و السِنكسار: نصرانی گرجوں میں عوام کے سامنے پڑھے جانے والے صالحین کے سوانح حیات۔

سنم: ا۔ سَنِمَ- سَنَماً البعیرُ: اونٹ کا بڑے کوہان والا ہونا۔ — النبتُ: پودہ کا شگوفہ دار یا بالیوں والا ہونا۔ سَنَّمَ الکلأُ البعیرَ: گھاس کا اونٹ کو موٹے کوہان والا کرنا۔ الاناءَ: برتن بھرنا۔ الشيءَ: کو بلند کرنا اٹھانا۔ — القبرَ: قبر کو کوہان نما بنانا۔ المکیالَ: پیمانہ کو بھر کر دانوں کو چوٹی دار کرنا۔ — أسنَمَ الکلأُ البعیرَ: گھاس کا اونٹ کے کوہان کو موٹا کرنا۔ — الدخانُ: دھوئیں کا اٹھنا۔ — تِ النارُ: آگ کے شعلوں کا بلند ہونا۔ تَسَنَّمَ الناقةَ: اونٹنی کے کوہان پر سوار ہونا۔ — الشيءَ: پر چڑھنا اور سوار ہونا۔ — هُ الشیبُ: کسی پر بڑھاپے کے آثار بکثرت ظاہر ہونا۔ — فلاناً: کو غفلت میں پکڑ لینا۔ السَنِم من الابل: بڑے کوہان والا اونٹ۔ — من النبات: زمین سے اٹھا ہوا شگوفہ دار یا بالیوں والا پودا۔ السَنام (ج) أسنِمَة: کوہان۔ کہتے ہیں۔ فلانٌ سَنام قومه: فلاں اپنی قوم کا بڑا آدمی ہے۔ سَنَمَةُ النباتِ: شگوفہ، چوٹی۔ رجلٌ سَنِم: بلند قد آدمی۔ التسنیم: جنت کے ایک چشمہ کا نام۔ المُسَنَّم من الجمال: وہ اونٹ جس پر سواری نہ کی جائے۔

۲- السِنِمّار (فلك): چاند، چور، جو رات کو نہ سوتا ہو۔

۳- السُنمُورَة (ح): ایک قسم کی چھوٹی مچھلی جو نمک لگا کر خشک کی جاتی ہے۔

سنه: ا۔ سَنِهَ- سَنَهاً: بہت سالوں والا ہونا صفت سَنِهٌ۔ سانَهَ الرجلَ: کے ساتھ ایک سال کا معاہدہ کرنا۔ — تِ النخلةُ: کھجور کے درخت کا سال بسال بار آور ہونا۔ تَسَنَّهَ: بمعنی سَنِهَ۔ — عنده: کے پاس سال بھر ٹھہرنا۔ السنة: باب سنو میں دیکھیں۔ السنهاء من النخل: سال بسال بار آور ہونے والا کھجور کا درخت۔ وہ کھجور کا درخت جو خشک سالی کی زد میں ہو۔ کہتے ہیں۔ سَنَةٌ سَنهاءُ: وہ سال جس میں نہ پیداوار ہو نہ بارش۔ السُنَیهَة: سَنَة کی تصغیر۔

۲- سَنِهَ- سَنَهاً الطعامُ او الشرابُ: کھانے یا مشروب کا خراب ہو جانا۔ تَسَنَّهَ الخبزُ: بدبو دار ہونا۔

سنا: ا۔ سَنا- سُنُوّاً و سَناوَةً و سُنُوّاً و سِنایَةً السحابُ الأرضَ: بادل کا زمین کو سیراب کرنا۔ — تِ السماءُ: آسمان کا برسنا۔ — علی الدابة: جانور پر پانی لانا۔ — الدلوَ: ڈول کنویں سے کھینچنا۔ السانی جمع سُناة (فا): پانی لانے والا۔ السانیة: جمع سَوانٍ: رہٹ، دولاب (ح): کنویں سے پانی لانے والی اونٹنی۔ المَسنُوّ و المَسنیّ من الاراضی: چاہی زمین۔ المُسَنّاة جمع مُسَنَّوات و مُسَنَّیات: سیلاب کو روکنے والا بند کہا جاتا ہے۔ عقلوا مُسَنِّیات لحبس المیاه: انہوں نے بارش کے پانی کو روکنے

کے لئے بند بنائے۔

۲۔سَنَا ۔سُنُوًّا و سَنَاوَةً وسُنُوًّا و سِنَايَةً البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ تِ النارُ: آگ کی روشنی کا بلند ہونا۔ تَسَنَّیٰ تَسَنِّیاً الشيءَ: پرچڑھنا۔ تِ العُقْدَةُ: گرہ کھلنا۔

۳۔سَنَا ۔سُنُوًّا و سَنَاوَةً وسُنُوًّا و سِنَايَةً الباب: دروازہ کھولنا۔ تَسَنَّى تِ العقدة: گرہ کھلنا۔

۴۔سَانَى سِنَاءً و مُسَانَاةً الرجُلَ: کے ساتھ ایک سال کے لئے کام کرنے کا معاہدہ کرنا۔ السَّنَة (ج) سُنُون و سِنُون و سَنَوات و سَنَهَات: سال، ۱۲ مہینے۔ تصغیر سُنَيَّة و سُنَيَّة و سُنَيْهَة: نسبت کے لئے۔ سَنَوِی و سَنَهِی: قحط، خشک سالی۔ سَنَةٌ سَوْاء: سخت سال۔ السَّنَة الضوئية: روشنی کا سال (فک) فاصلہ جسے روشنی ایک پورے سال میں طے کرے یعنی ۹۴۶۸ بلین میٹر۔ ہم سے قریب ترین ستارہ چار روشنی کے سالوں سے زیادہ دور ہے۔

۵۔السَّنَا (ن): ایک دست آور پھل والا درخت۔

۶۔السُّنُونُو واحد سنونوة و سُنُونِيَة (ح): ابابیل۔

سني: ا۔سَنَى ۔سَنْياً البابَ: دروازہ کھولنا۔ العقدةَ: گرہ کھولنا۔ سَنَّى تَسْنِيَةً الامرَ: کام یا معاملہ آسان کرنا۔ سَانَى مُسَانَاةً و سِنَاءً الرجُلَ: کو راضی کرنا، کی مدارات کرنا اور مطالبہ میں اس سے نرمی سے پیش آنا۔ تَسَنَّى الامرُ: معاملہ کا تیار ہونا۔ الرجُلُ: آدمی کا اپنے معاملات میں آسانی و نرمی کرنا۔ ۔ الرجُلَ: کو راضی کرنا۔ القفلُ: قفل کا کھلنا۔

۲۔سَنِيَ ۔سَنَاءً: بلند مرتبہ ہونا۔ أَسْنَى اسناءً البرقُ: بجلی کا چمکنا اور کوندنا۔ ۔ النارَ: آگ روشن کرنا۔ لہ الجائزةَ: کو اعلیٰ انعام دینا۔ کہتے ہیں جاورتُهُ وأسنى جواري: میں اس کا پڑوسی ہوا تو اس نے حق ہمسائیگی ادا کیا۔ السَّنَى: بجلی۔ السَّنَاء (مص): بمعنی سَنَی: روشنی، بلندی۔ السَّنِيّ م سَنِيَّة: بلند مرتبہ۔ السَّنَايَا: شریف بلند شان والا آدمی۔ کہتے ہیں۔ رجُلٌ سَنَايَا: یعنی رفیع الشان مرد (جمع کے صیغے میں مفرد)

۳۔أَسْنَى اسناءً القومُ: کسی جگہ ایک سال رہنا۔

۴۔تَسَنَّى الشيءُ: متغیر ہونا، خراب ہونا۔

۵۔السَّنَى: ریشم۔ السَّنَا (ن): ایک دست آور پھل کا درخت۔ السِّنَايَة: تمام چیز۔ کہتے ہیں۔ اخذتُه بسنايته: میں نے وہ ساری کی ساری لے لی۔

○ مُسَنَّاة جمع مُسَنَّيَات: حفاظتی بند (جیٹی) ڈیم۔

سنودس: کلیسائی مجلس (synod)

سنوی: سالانہ۔ سنویا: سال کے سال، فی سال۔

سهب: ا۔سَهَبَ ۔سَهْباً الشيءَ: چیز لینا۔ أُسْهِبَ: بیماری، محبت یا خوف سے عقل جاتی رہنا اور رنگ بدل جانا۔

۲۔أَسْهَبَ الكلامَ و في الكلام: تفصیل سے بات کرنا۔ صفت مُسْهِب و مُسْهَب: موخر الذکر کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ الرجُلُ: بہت داد و دہش کرنا، حرص و لالچ کرنا۔ الفرسُ: گھوڑے کا فراخ، فراخ قدم رکھنا۔ أَسهبوا الدابَّةَ: جانور کو چرنے کے لئے چھوڑ دینا۔ أُسْهِبَ تِ البئرُ: کنوئیں کا زیادہ گہرا ہونے کی وجہ سے اس کے پانی تک نہ پہنچ پانا۔ صفت: مُسْهَبَة و مُسْهِبَة اِسْتَهَبَ: بہت بخشش دینا۔ السَّهْب (مص) بیابان، وقت (کہتے ہیں مضى سَهْبٌ من الليل: رات کا کچھ حصہ گزر گیا)۔ من الخيل: کشادہ قدموں سے تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ السُّهْب والسَّهْب من الارض جمع سُهُوب: کشادہ ہموار زمین، کہتے ہیں۔ قطعوا سُهْبًا أو سُهُبًا من الارض: انہوں نے کشادہ ہموار زمین طے کی۔

○ أَسْهَبَ عن: کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنا، شرح وبسط سے گفتگو یا کلام کرنا، کے متعلق تفصیل سے بیان کرنا، پر تفصیل سے روشنی ڈالنا۔ بإسهاب: تفصیل سے۔ مُسْهِب و مُسْهَب: مفصل۔

سهج: ا۔سَهَجَ ۔سَهْجًا تِ الريحُ: ہوا کا لگاتار تیز چلنا۔ ت الريحُ الارضَ: ہوا کا زمین کو چھیلنا۔ الطيبَ: خوشبو گھسنا، رگڑنا۔ السَّاهِج جمع سُهَّج و السَّيْهَج والسَّهُوج والسَّيْهُوج من الارياح: سخت تیز ہوا، آندھی۔ المَسْهَج: تند ہوا کی گزرگاہ وہ جگہ جہاں تیز ہوا چلتی ہو۔ المِسْهَج: حق و باطل پر گفتگو کرنے والا، فصیح و بلیغ۔ السَّهْجَة: چیخ پکار۔

۲۔سَهَجَ ۔سَهْجًا القومُ ليلتهم: لوگوں کا رات بھر چلتا رہنا۔

سهد: ا۔سَهِدَ ۔سَهَدًا و تَسَهَّدَ: جاگتے رہنا، کم نیند والا ہونا۔ سَهَّدَهُ: کو جگا رکھنا، بیدار رکھنا کہتے ہیں۔ سَهَّدَهُ الهمُّ: غم نے اسے جگائے رکھا، سونے نہ دیا۔ السُّهْد و السُّهَاد: بے خوابی۔ السُّهُد: جاگنے والا، کم نیند والا کہتے ہیں۔ رجلٌ سُهُد و عينٌ سُهُد: کم نیند والا آدمی، آنکھ جس میں نیند نہ ہو۔ تھوڑی نیند۔ السَّهْدة: بیداری کہتے ہیں۔ ما رأيت منه سَهْدَةً: میں نے اس میں بھلائی کی طرف توجہ اور رغبت نہیں پائی۔ الأَسْهَد: کہتے ہیں۔ هو أسهد منك رأياً: وہ رائے میں تم سے زیادہ

ہوشیار اور بیدار مغز ہے۔ المُسَهَّد: کم خواب آدمی۔

۲۔السَّهْوَد: بہت لمبا۔ کہتے ہیں۔ غلامٌ سَهْوَدٌ: نازک اندام نوجوان لڑکا۔

○ سُهْد، سُهُد، سُهاد: بے خوابی۔ ساهِد: جسے نیند نہ آئی ہو، بیدار۔

سهر: ا۔سَهِرَ ۔سَهَراً: رات کو نہ سونے والا ہونا، رات بھر جاگتے رہنا۔ صفت۔ ساهِر و سَهران کہتے ہیں۔ ليلةٌ ساهِرة: رت جگے کی رات۔ ساهَرَهُ: کے ساتھ جاگنا۔ اَسْهَرَهُ: کو جگائے رکھنا۔ الساهِرة: چاند، زمین، سطح زمین، کیونکہ نباتات میں اس کا عمل دن رات جاری رہتا ہے۔ ہمیشہ بہنے والا چشمہ۔ ساهر کا مونث۔ الساهور: بیداری، چاند کا ہالہ، چاند کہتے ہیں۔ دخل القمرُ في الساهور: یعنی چاند گہن میں آ گیا۔ ساهورُ عينِ الماء: چشمہ کا منبع۔ السُّهار: بیداری، بے خوابی کہتے ہیں۔ رجلٌ سُهارُ العين: وہ آدمی جس پر نیند غالب نہ ہو۔ السَّهّار و السُّهَرَة: بہت جاگنے والا۔ المِسْهار: جاگنے کی سکت والا۔

۲۔سَهِرَ ۔سَهَراً البرقُ: بجلی کا رات کو چمکنا۔

۳۔الساهور: زیادتی۔ الأَسْهَران (ع ا): آنکھ کی دو رگیں، ناک کی دو رگیں۔

○ سَهِرَ ۔سَهَراً: نیند نہ آنا، رات جاگ کر گزارنا۔ سهر الليل: بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ ۔۔۔ على: رات کسی نہ کسی کام میں گزارنا، پر پہرہ دینا، کی نگہبانی کرنا، اپنے مفادات وغیرہ کی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، پر توجہ کرنا۔ في حفلة: شام یا رات کی کسی تقریب میں شرکت کرنا۔ أَسْهَرَه: کو سونے نہ دینا، جاگتا رکھنا۔ طال عنده سهري: میں نے ایک طویل شام اس کے ساتھ گزاری۔ سَهْرَة جمع سَهَرات: شام، شام کی تقریب، محفل شام کا اجتماع، شام کا شو یا پروگرام۔ سهرة ليلية: مندرجہ بالا معنی۔ ثياب او لباس السهرة: شام کا لباس۔ سَهْران: بے خواب، [illegible]، چوکنا، چوکس۔ سَهّار: عادتا رات کے وقت بیدار رہنے والا اور گھر سے باہر رہنے والا۔ مَسْهَر جمع مَسَاهِر: نائٹ کلب night club حفلةٌ ساهِرة: شام کی پارٹی، شام کی تقریب، شو یا پروگرام، محفل شب، رات کی محفل۔

سهف: ا۔سَهَفَ ۔سَهْفاً القتيلُ: مقتول کا حالت نزع میں بے قرار ہونا۔ سَهِفَ ۔سَهَفًا: ہلاک ہونا۔ الساهِف (فا): ہلاک ہونے والا۔

۲۔سَهِفَ ۔سَهَفًا: سخت پیاسا ہونا کو بہت پیاس لگنا۔

السَّاهِف جسے حالت نزع میں سخت پیاس لگے۔ السُّهاف وہ بیماری جس میں سیرابی نہیں ہوتی۔ طعامٌ مُسْهِفَةٌ بہت پانی پلانے والا کھانا۔ رجلٌ مُسْتَهِفٌ بہت پانی پینے والا آدمی جس کو سیری نہ ہوتی ہو۔

۳۔ اِسْتَهْفَ ہٗ: کو خفیف سمجھنا۔

۴۔ ساهِفُ الوجہ متغیر چہرے والا۔ السَّهَف: مچھلی کے چھلکے۔

○ سَهِفَ - سَهَفًا بہت پیاسا ہونا۔ سُهاف سخت پیاس۔

سہق: السَّهْوَق بڑا جھوٹا۔ دراز، ٹانگوں والا، درخت کا تنہ جسے خوب سیراب کیا جاتا ہو۔ السَّهْوَق: کشادہ قدم والا۔

سہک: ۱۔ سَهَكَ - سَهَكَتِ الریحُ ہوا کا بہت تیز چلنا۔ ۔تِ الریحُ الترابَ عن وجہ الارض ہوا کا زمین کی سطح سے مٹی اڑانا۔ ۔ الشیءَ: کو گھسنا، رگڑنا۔ و سُهُوكًا تِ الدابةُ: جانور کا ہلکی چال چلنا۔ ریحٌ ساهِكَةٌ جمع سَواهِك رساهِكات: سخت آندھی۔ السَّهّاك بہت تیز گفتار والا۔ ریحٌ سَهُوكٌ و سَيْهُوكٌ و مَسْهَكَةٌ تند و تیز ہوا۔ السَّيْهَك ہوا کا اڑایا ہوا غبار۔ ریحٌ سَيْهَك بہت تند ہوا۔ المِسْهَك: بہت تیز گفتار والا، طرار۔ من الخیل: تیز رو گھوڑا۔ المَسْهَك و المَسْهَكَة سخت تیز ہوا کی گزرگاہ۔

۲۔ سَهِكَ - سَهَكًا بدبودار ہونا۔ صفت سَهِك: کہتے ہیں۔ یدی سَهِكَةٌ من السمك میرا ہاتھ مچھلی سے بدبودار ہے۔ السَّهَك: لوہے کا زنگ۔ والسُّهكة والسَّهُوكة پسینہ یا سڑے ہوئے گوشت یا مچھلی کی بدبو۔

سہل: ۱۔ سَهُلَ - سُهُولَةً المکانُ جگہ کا نرم ہونا۔ سُهُولَةً و سَهالَةً الامرُ کام کا آسان ہونا۔ صفت: سَهْلٌ و سَهِلٌ۔ سَهَّلَ الامرَ لہٗ و علیہ کام کو کسی کے لئے آسان کرنا۔ ۔ الموضعَ جگہ کو نرم بنانا۔ ساهَلَ مُساهَلَةً ہٗ سے نرمی اور سہولت کا برتاؤ کرنا۔ اَسْهَلَ: پہاڑ سے میدان میں اترنا۔ ۔ ہٗ الدواءُ دوا کا پیٹ کو نرم کرنا۔ ۔ الرجلُ: لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، دست والا ہونا۔ ۔ الامرَ: کام کو آسان پانا۔ تَسَهَّلَ الامرُ: کام وغیرہ کا آسان ہونا۔ کہتے ہیں: ما تَسَهَّلَ لی اَن اَفْعَلَهٗ: میرے لئے یہ کرنا آسان نہیں۔ تساهَلَ الرجلان: ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ ۔ الامرَ علیہ: کام کا کسی پر آسان ہونا۔ اِسْتَهَلَ المکانُ: کسی جگہ کو نرم سمجھ کر اقامت کرنا۔ استسهلَ ہٗ کو آسان سمجھنا۔ السَّهْل جمع سُهُول و سُهُولة: نرم ہموار زمین، نسبت کے لئے سُهْلِی جیسے بعیر سُهْلِی: نرم زمین میں چرنے والا اونٹ۔ ارضٌ سَهْلٌ: نرم ہموار زمین۔ سَهْلُ الوجہ: رخساروں پر کم گوشت والا۔ سهلُ الخُلُق: نرم خو نرم طبیعت والا کہتے ہیں۔ اَهْلًا و سَهْلًا: (استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں) تم اپنوں ہی میں آئے نہ کہ غیروں میں تم نے نرم زمین پر قدم رکھا نہ کہ سخت زمین پر۔ السِّهْل: ریت کی طرح کی مٹی جس کو پانی بہالاتا ہے۔ السِّهْلَة: بمعنی السِّهْل، اِسْهال دست۔ الاِسْهال: دست، دست آنا۔ السَّهُول: دست آور دواء۔

۲۔ سُهَيْل (فلک) ایک روشن ستارہ جو گرمی کے آخر میں طلوع ہوتا ہے مشہور ہے کہ اسکی خاصیت سے کبریلے مرجاتے ہیں اور یمن میں عمدہ چمڑا تیار ہوتا ہے۔

○ لایسهل اَن: مشکل سے، بمشکل۔ سهل الاستعمال: استعمال میں آسان۔ سهل الهضم: آسانی سے ہضم ہونے والا، ہلکا (کھانا وغیرہ) عُمْلَةٌ سهلة سافٹ کرنسی۔ کان من السهل علیہ: کے لئے آسان ہونا۔

سہوُل: (صفت و اسم) جُلاب مُسْهِل قبض کشا، ملین، قبض کشا دوا، دست آور دوا۔ بِسُهولةٍ: آسانی سے۔ تساهل: شفقت، کرم، نرمی شرافت، نرمی، بردباری، برداشت، صبر، نرم مزاجی، بے پروائی، غفلت، بے پروائی۔ مُسْهِل دست آور۔ جمع مُسْهِلات قبض کشا دوا۔ دست آور دوا۔ مُسْهَل: جس کو دست لگے ہوں۔

سہم: ۱۔ سَهَمَ - وَسَهُمَ - سُهُومَةً و سُهُومًا: دبلے پن سے رنگ متغیر ہونا۔ وجہہٗ تیوری چڑھانا۔ السَّاهِمَة من النوق جمع سَواهِم دبلی اونٹنی۔ السُّهام: لاغری کے ساتھ رنگ کی تبدیلی۔ ۔ والسَّهام اونٹوں کی بیماری۔ رجلٌ مُسْهَمُ الجسم محبت میں لاغر ہونے والے جسم والا۔ المُسْهَم والمَسْهُوم من الابل بیمار اونٹ۔

۲۔ سَهَمَ - سُهُومَةً و سُهُومًا ہٗ پر قرعہ اندازی میں غلب آنا۔ ساهَمَ ہٗ کے ساتھ قرعہ اندازی کرنا۔ فی الامر میں شرکت کرنا، حصہ لینا۔ اَسْهَمَ بین القوم کے درمیان قرعہ ڈالنا۔ ۔ لہٗ فی کذا میں کسی کا حصہ رکھنا۔ تَساهَمَ القومُ: آپس میں قرعہ اندازی کرنا۔ ۔ القومُ الشیءَ: کو آپس میں بانٹ لینا۔ اِسْتَهَمَ القومُ: آپس میں قرعہ اندازی کرنا۔ السَّهْم جمع سِهام: جوئے کا تیر، جس سے قرعہ ڈالتے ہیں۔ تیر۔ جمع اَسْهُم و سُهْمَة و سُهْمان: حصہ۔ (اصابہ فی القسمة سَهْمان: تقسیم میں اسے دو حصے ملے)۔ چھ ہاتھوں کے پھیلاؤ کی مقدار۔ سہمُ الرامی (فلک) ایک ستارہ۔ السُّهْمَة: قرابت، تقسیم۔ حصہ۔ السَّهِیم: حصہ دار، شریک۔ المُسْهَم: لاغر، متغیر رنگ والا، دوغلا گھوڑا۔ المُسَهَّمَة من الثیاب: دھاریدار کپڑا۔

۳۔ سُهِمَ: لو لگنا۔ السَّهام: لو کی گرمی، گرمی کی شدت۔ السَّهْم: سورج کی کرنیں، سخت گرمی۔

۴۔ اَسْهَمَ فی الکلام: لمبی گفتگو کرنا۔ صفت مُسْهِم و مُسْهَم۔ المُسْهَب: مفصل

۵۔ السُّهْم: عقلاء، حکماء، دانشمند لوگ، دانا لوگ۔ السَّهام: ترمرے یعنی لکڑی کے جال کی طرح موسم گرما میں فضا میں نظر آنے والی چیز۔

○ سَهُمَ - سُهُومًا: سنجیدہ نظر آنا، سنجیدگی کا مظہر ہونا۔ ساهَمَ ہٗ: کیساتھ قرعہ ڈالنا۔ قرعہ نکالنا۔ ۔ فی: میں شریک ہونا حصہ لینا، میں شرکت کرنا، میں حصہ دار ہونا۔ اَسْهَمَ لہ فی: کو کسی چیز میں حصہ دینا، کو کسی چیز میں حصہ دار بنانا۔ سَهْم جمع سِهام و اَسْهُم و سُهُوم: تیر، چھوٹی برچھی جمع اَسْهُم: حصہ۔ سهم ناری: راکٹ۔ اَسْهُمُ التاسیس: بانیوں کے حصے، اصلی حصے۔ اَسْهُم القرض: بونڈ، گورنمنٹ لونڈ۔ حَمَلَةُ الاَسْهُم: شراکت دار، سٹاک ہولڈرز Stock holders۔ نفذ السهم: قطعی فیصلہ کرلیا، جو ہو سو ہو۔ ضرب بسهم مصیب فی: میں عملی حصہ لینا، میں عملی طور پر حصہ لینا۔ سُهُوم: سنجیدگی، سنگینی، غم، الم، غمناکی، غم انگیزی، دردناکی۔ اسهمی: حصہ یا سٹاک کا، حصہ یا سٹاک سے متعلق۔ مساهمة فی: میں حصہ لینا، شرکت کرنا، حصہ دار ہونا۔ شرکةُ المساهمة: جائنٹ سٹاک کمپنی، کارپوریشن۔ ساهِم: سنجیدہ رو، سنجیدہ وضع قطع والا، سنجیدہ چال ڈھال والا۔ مُساهِم: حصہ دار، شراکت دار، سٹاک ہولڈر (Stock holder)

سہا: ۱۔ سَها - سَهْوًا و سُهُوًّا فی الامر وعن الامر سے غافل ہونا، کو بھول جانا، دل کا دوسری طرف پھرنا۔ صفت۔ ساہٍ و سَهْوان۔ ۔ الیہ: کی طرف نیچی نگاہ سے دیکھنا۔ کہتے ہیں۔ مالٌ لا یُسْهَی ولا یُنْهَی: خال اتنا زیادہ ہے کہ شمار و قطار میں ہی نہیں آتا۔ سَهُوَ - سَهاوَةً الفرسُ: گھوڑے کا جلد رام ہو جانا۔

صفت: سَهْوٌ۔ سَاهَى الرجُلَ في المعاشرة: کے ساتھ نرمی کرنا اور خوش خلقی سے برتاؤ کرنا۔ ۔ ہٗ: کو غافل کرنا، سے استہزاء کرنا۔ السَّهْو جمع سِهَاء: (مص) سکون، نرمی کہتے ہیں۔ اِفْعَلهُ سَهْوًا رَهْوًا: اس کو کسی تقاضے کے بغیر خود بخود آسانی سے کرو۔ حملٌ سَهْوٌ: سدھایا ہوا، مطیع اونٹ۔ ماءٌ سَهْوٌ: صاف مقطر پانی۔ امرٌ سَهْوٌ: آسان کام۔ ریحٌ سَهْوٌ: نرم ہوا۔ السُّهَى و السُّهَا (فلک): بنات نعش میں ایک چھوٹا ستارہ۔ اس کے ذریعے لوگ اپنی آنکھوں کا امتحان لیتے ہیں جب کسی سے کوئی سوال کیا جائے اور وہ اس کا بے تکا جواب دے تو کہتے ہیں۔ اُريها السُّهى و تريني القمر: سوال گندم جواب چنا۔ السَّهْوَة: مونث السَّهْو، سَهَا کا اسم مرۃ۔ جمع سِهَاء: نرم کمان۔ الساهي (فا) کہتے ہیں۔ بعيرٌ ساهٍ راهٍ: ہلکی نرم رفتار کا اونٹ۔ جمع جمالٌ سَوَاهٍ رواهٍ وہ شخص جسے حماقت یا انتظار خیالی سے نیند آجائے۔ (عام لوگوں کی زبان میں)

۲۔ سَهَى هٗ: فرائی پان میں گرم کر کے خشک کرنا۔

۳۔ اَسْهَى الرجُلُ: سهوة بنانا: (دیکھو سهوة)

السَّهْوَة جمع سِهَاء: الماری اور طاقچہ جیسی چیز جس میں کوئی چیز رکھی جائے۔ کھڑکی۔ صحن کے سامنے کا پردہ، روشندان، پانی کے سامنے کا خیمہ، پالکی۔

۴۔ السِّهْو السِّهْواء: رات کا ایک حصہ۔ السَّهْوَة جمع سِهاء: پتھر کی چٹان۔ الأَسَاهِي: الوان، رنگ (جمع) اس کا مفرد نہیں ہوتا۔

۵۔ سَهْوَكَ هٗ: کو بچھاڑنا، ہلاک کرنا۔ تَسَهْوَكَ: بچھڑنا، ہلاک ہونا، واپس ہونا، آہستہ چلنا۔

○ سَهَا سُهْوًا و سُهُوًّا: کا متوجہ نہ ہونا، کا دماغ حاضر نہ ہونا، کے خیالات کا منتشر ہونا۔ ۔ عن: کو نظر انداز کرنا، سے غفلت کرنا، کو بھول جانا، چھوڑ دینا، سے چشم پوشی کرنا۔ سُهِيَ عليه: کسی خیال میں غرق ہونا، کھویا ہوا ہونا۔ سَهْــو: عدم توجہ، بے توجہی، نادانستگی، پراگندہ دماغی، خیالات میں کھویا ہوا ہونا، گم ہونا، مستغرق اور غافل ہونا۔ سَهْــوًا: بے توجہی سے، غفلت سے، غلطی سے، نادانستہ، بے پروائی سے۔ سَهْوة: ایک قسم کا طاق، محراب۔ سَاهِيًا لاهِيًا: تفکرات سے آزاد ہو کر اپنا دل بہلاتے ہوئے مکمل طور پر آرام سے۔

ساء: ا۔ سَاءَ سُوءًا و سَوْءًا و سَوَاءَةً و سَوَايَةً و سَوَائِيَةً و مَسَاءً و مَسَاءَةً و مَسَايَةً و مَسَائِيَةً و مَسَائِيَةً الامرُ فلانًا: کسی بات کا فلاں کو غمگین کرنا اور اس کے ساتھ وہ کرنا جو اسے برا لگے۔ ۔ به ظنًّا: پر بدگمانی کرنا۔ ۔ الشيءُ: قبیح ہونا، برا ہونا۔ سَاءَتْ سِيرَتُهٗ: اس کا رویہ بگڑ گیا۔ سَوَّأَ تَسْوِئَةً و تَسْوِيئًا هٗ: کو خراب کرنا۔ ۔ عليه عملَهُ: کے کام پر اس کو ملامت کرنا، سرزنش کرنا۔ اَسَاءَ اِسَاءَةً الشيءَ: کو بگاڑنا، خراب کرنا۔ ۔ اليه: کے ساتھ برائی کرنا۔ ۔ به الظنَّ: پر بدگمانی کرنا۔ اِسْتَاءَ: ناگوار طور پر متاثر ہونا، کو برا لگنا، ناگوار گزرنا، دل کو دکھ پہنچنا۔ برہم ہونا، پریشان ہونا، غصہ ہونا، ناخوش ہونا۔ ۔ عن (من سے، پر، کے متعلق وغیرہ) السَّوْء: فساد، بگاڑ، خرابی، برائی۔ رجُلُ سَوْءٍ و رجلُ السَّوْءِ: برا آدمی، بدکار آدمی۔ السُّوء جمع اَسْوَاء: ساءہ کا اسم۔ آفت، شر و فساد۔ ما اُنكِرُكَ من سُوْءٍ: میرے تمہیں پہچاننے سے انکار کی وجہ تمہارے متعلق عدم واقفیت کی وجہ سے تھی نہ کہ تم میں کوئی برائی دیکھنے کی وجہ سے۔ السَّوْءَةُ جمع سَوْءَات: بے حیائی، بری خصلت، شرمگاہ۔ السَّوْءَاء: بری خصلت، بری عادت، بدشکل عورت۔ السَّيُّ: برا، قبیح کہتے ہیں۔ هو سَيِّئُ الظنِّ: وہ لوگوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا۔ السَّيِّئَة جمع سَيِّئَات: سَيِّئ کا مونث۔ برائی۔ بدی، خطا کاری۔ الأَسْوَأُ م سُوْأَى: اسم تفضیل، سب سے برا، بد شکل قبیح۔ المَسَاءَة جمع مَسَاوِئ: برا کام یا بری بات۔ المَسَاوِي: عیوب و نقائص۔

۲۔ السُّوء: آگ، آنکھ کی کمزوری۔ السُّوْأَى: جہنم کی آگ۔

○ سَاءَ به ظنًّا: کے متعلق بدگمان ہونا، کے متعلق بری رائے رکھنا۔ ساءَ طالِعُه: وہ ایک برے ستارے کے نیچے آگیا، وہ بدقسمت تھا۔ يسوءني: مجھے افسوس ہے۔ اساء استعمالَهٗ: کو غلط استعمال کرنا۔ اساء معاملتَه: سے برا سلوک کرنا۔ اساء الفهمَ: غلط فہمی کرنا، غلط سمجھنا۔ سُوءُ البخت: بدقسمتی۔ سُوْءُ الحَظِّ: بدقسمتی، بدنصیبی۔ لسوءِ الحظ: بدقسمتی سے۔ سوءُ الخُلُق: بدخلقی۔ سوء الحال: برے حالات۔ سوء الحالة: بری صورت حال ناگوار صورت حال، خطرناک صورت۔ سوء الادارة: نظم و نسق کی خرابی۔ بدانتظامی۔ سوء السلوك: بدسلوکی۔ سوء الظن: بدگمانی۔ سوء العلاقات: برے تعلقات۔ سوء المعاملة: بدسلوکی۔ سوء الاستعمال: غلط استعمال۔ سوء الفهم: غلط فہمی۔ سوء التفاهم: باہمی غلط فہمی، آپس میں ناموافقت۔ سوء القصد و سوء النية: بدنیتی۔ سوء الهضم: بدہضمی۔ سوءةً لك: تمہیں شرم آنی چاہئے۔ سَيِّئُ الحظ: بدقسمت۔ سَيِّئُ الخلق: بدخلق۔ سيئ التربية: بری تربیت والا۔ سيئُ السُّمْعَة: بدنام۔ سيئ الطبع: بدمزاج، بداطوار، بری طبیعت والا۔ سيئ الطالع: بدقسمت۔ من سيئٍ اِلى أسوأ: بد سے بدتر۔ اساءة الظن: بدگمانی۔ اِساءةُ المعاملة: بدسلوکی۔

ساج: ا۔ سَاجَ سُوْجًا و سُوَاجًا و سَوَجَانًا: آہستہ آنا جانا۔

۲۔ سَوَّجَ و سَيَّجَ الكَرْمَ و نحوه او على الكرم: انگور وغیرہ کی بیل پر باڑ لگانا۔ السِّيَاج جمع سِيَاجات و اَسْوِجة و سُوْج: دیوار، باڑ (انگور وغیرہ کی بیل کی)

۳۔ السَّاج: ساکھو کا درخت۔ کشادہ، گول چادر۔ کساءٌ مُسَوَّج: گول چادر۔

○ ساج جمع سيجان: ساگوان، ہندوستانی شاہ بلوط۔ سياج جمع سياجات و اسوجة و اسياج: باڑ، جنگلا، احاطہ (مجازاً) فصیل، شہر پناہ۔

ساح: الساحة جمع ساح و سُوح و سَاحات: گوشہ، کنارہ، گھروں کے بیچ کا چوک۔

○ الساحة: صحن، آنگن، انگنائی، چوک، کھلی جگہ، اکھاڑہ، دنگل، میدان۔ ساحة الحرب: میدان جنگ۔ ساحات المحاكم: عدالتیں۔ ساحةُ القتال: میدان جنگ، جنگی علاقہ۔ ساحة القضاء: عدالت، خصوصی عدالت، مرکز مباحثہ۔ ساحة الالعاب: کھیلوں کا میدان۔ برّأ ساحتَهٗ: کو بری کرنا۔ سَاحَ سُوْحًا: سفر کرنا، ادھر ادھر گھومنا، سیر و گشت کرنا، سیاحت کرنا۔ سوّاح جمع سوّاحون: مسافر، سیاح۔ سائح جمع سائحون و سُيّاح سُوّاح: مسافر، سیاح۔

ساخ: ا۔ سَاخَ سُوْخًا في الطين: کیچڑ میں دھنس جانا۔ ۔ الشيءُ في الماء: پانی میں بیٹھ جانا۔ ۔ سُوُوْخًا و سُوُوخًا و سَوَخَانًا ت بهم الارضُ: زمین کا کسی کو اپنے اندر نگل لینا۔ تَسَوَّخَ في الطين: کیچڑ میں دھنس جانا۔ السُّوَاخ و السُّوَّاخ و السُّوَّاخي و السُّوَاخِيَة: بہت کیچڑ، دلدل۔ کہتے ہیں۔ مُطِروا حتى صارت الارض سُوَّاخي: اتنی بارش ہوئی کہ زمین کیچڑ بن گئی۔ کہتے ہیں۔ سطحات سواخي: دلدلی نشیبی زمین۔

۲۔ السُّوخية (عند العامة): خشک ٹہنی۔

○ ساخ في الارض: پاؤں کا زمین میں دھنس جانا۔

ساخت روحُهٗ بیہوش ہونا، غش کھاجانا۔

ساد: ۱۔ سَادَ ۔ يَسُودُ سِیَادَةً و سُوْدَدًا و سُوْدُدًا و سَیْدُوْدَةً و سُوْدًا شریف ہونا، بزرگ ہونا ۔۔۔ قومَهٗ: قوم کا سردار ہونا۔ ہٗ: شان و شرف میں کسی پر غالب آنا، صفت سَائِد جمع سَادَة جمع سادات۔ سَوَّدَ: دلیر ہونا۔۔ ہٗ: کو سردار بنانا۔ ۔۔۔ الرجُلُ: کا سرداروں کو قتل کرنا۔ سَاوَدَهٗ: کیساتھ مکر وفریب کرنا، سے سرداری یا بزرگی میں غالب آنا۔ أَسَادَ اسَادَةً و أَسْوَدَ اسْوادَاتِ المرأةُ: عورت کا سردار کو جننا۔ اسْتَادَ القومَ: قوم کے سردار کو قتل یا گرفتار کرنا۔ في بني فلان: قوم کے سردار کی لڑکی سے نسبت چاہنا۔ السَّائِد جمع سادة و جمع سادات (فا) السُّوْد: (مص) سرداری۔ السُّوْدَد و السُّوْدُد: بلند قدر سرداری، منصب کی عظمت۔ السِیَادَة: (مص) لقب شرفی جیسے سیادتکم، سیادة المطران، سیادة الرئیس: (محترم، صاحب امتیاز اسقف اعظم اور فضیلت ماب جناب صدر) السَّیِّد جمع اسیاد و سادة و سَیَائِد: سردار تخفیف کر کے سَیْد بھی بولتے ہیں۔ عام لوگ اس میں ع کلمہ کو زیر دیتے ہیں۔ نصاری کے ہاں۔ حضرت مسیح کا لقب ہے اور مسلمانوں میں ان لوگوں کا جو نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ السَّیِّدَان: حضرت علی کے بیٹے حسن اور حسین۔ السَّیِّدَة: حضرت مریم کا لقب۔ عام لوگ سَیِّدَتی کے بجائے سِتّی کہتے ہیں۔ الأسود من القوم: قوم کا بزرگ۔ کہتے ہیں۔ هو اسود من فلان: وہ اس سے زیادہ بزرگ ہے اسکی تصغیر أُسَیْوِد و أُسَیِّد ہے۔

۲۔ سَوِدَ ۔ سَوَدًا: کالا ہو جانا، سیاہ ہونا ۔۔۔ الشيءَ: کو کالا کر دینا، سیاہ کر دینا۔ سَاوَدَهٗ: کو رات کی تاریکی میں ملنا۔ پر سرداری یا سیاہی میں غالب آنا۔ أَسَادَ إِسَادَةً تِ المرأةُ: عورت کا کالے رنگ کا بچہ جننا۔ أَسْوَدَ اسْوَادَاتِ المرأةُ: سیاہ رنگ کا بیٹا جننا۔ تَسَوَّدَ: کالا ہونا۔ اسْوَدَّ اِسْوِدَادًا: کالا ہونا، سیاہ ہونا۔ اسْوَادَّ اسْوِیدَادًا: سیاہ ہونا۔ السَّود ج اسواد: اس کے ایک ٹکڑے کو سَوْدَة کہتے ہیں: سیاہ پتھروں والا ہموار میدان۔ السُّوْدَة: نخلستان۔ السَّوَاد جمع أَسْوِدَة و جمع أَسَاوِد: سیاہی، وجود، بہت مال، بڑی تعداد۔ عند الكتاب والطباعين: مسودة۔ سَوَادُ الليل: پوری رات۔ سَوَادُ البلدة: شہر کے ارد گرد کی بستیاں اسی سے ہے۔ سَوَادُ العراق: بصرہ اور کوفہ کے مابین اور ان کے گرد کے دیہات۔ سَوَاد الناس: عام لوگ۔ سواد العسكر: فوج کا اسلحہ، مشینیں اور اوزار۔ سَوَادُ العین: آنکھ کا سیاہ حصہ۔ سواد القلب: دل کا درمیان، دل کا سیاہ نقطہ۔ السُّوَاد: (طب) دانتوں کی بیماری۔ السُّوَادِيَّة و السُّودَانِيَّة: (ح) ایک قسم کی چڑیا۔ الأَسْوَد جمع سُوْد و سُوْدان م سَوْدَاء: کالا سیاہ (ح)۔ بڑا کالا سانپ اس کو عقش بھی کہتے ہیں۔ من العین: آنکھ کی پتلی۔ کہتے ہیں۔ فلانٌ أسْوَدُ الكبد: فلاں دشمن ہے جمع سُوْدُ الاكباد السهم الأسود: مبارک تیر جس سے برکت حاصل کی جائے۔ الأَسْوَدَان: کھجور اور پانی۔ (ح) سانپ اور بچھو۔ الحَبَّةُ السَّوْدَاء: کلونجی۔ السَّوْدَاء والسُّوَيْدَاء: مالیخولیا کی بیماری، چار اخلاط میں سے ایک خلط۔ سَوْدَاءُ و سُوَيْدَاءُ القلب: دل کا سیاہ نقطہ۔ السُّوْدَان: واحد سُوْدَانِي: (جمع أسود کی) حبشی لوگ۔ المُسَوَّدَة: غیر صاف شدہ پہلی تحریر۔ اگر اصل پر نظر ثانی کر لی گئی ہو تو وہ مُبَیَّضَة کہلاتا ہے۔ کالی شیشی۔ (عام زبان میں) والمُسَوَّدَة من الايام: مصیبتوں اور آلام کے دن۔

۳۔ سَادَ ۔ يَسُودُ سِیَادَةً و سُوْدُدًا و سُوْدَدَةً و سُوْدًا الرجلَ: سے راز کی بات کہنا۔ سَاوَدَهٗ: سے پوشیدہ بات کرنا۔ تَسَوَّدَ: شادی کرنا۔ السِّوَاد: سَاوَدَهٗ بمعنی کسی سے راز کی بات کرنا کا اسم۔ پوشیدہ گفتگو۔ السَّوَاد جمع أَسْوِدَة جج أَسَاوِد: وجود، سایہ، آپ کہتے ہیں۔ رأیتُ سَوَادًا: یعنی میں نے ایک وجود دیکھا، ایک سایہ دیکھا۔

۴۔ سَادَ ۔ يَسُودُ سُوَادًا الرجلُ: زردی مائل پانی پینا۔ السُّوَاد: (طب) پیلا پن۔ ماءٌ مَسْوُوْدَة: پانی جو پیلا ہو گیا ہو۔ المَسْوُوْد: رنگ پیلا پڑنے کی بیماری میں مبتلا۔

۵۔ سَاوَدَ الأسدَ: شیر کو رگیدنا۔ کھدیڑنا۔ السِّيد ج سِیدان (ح) بھیڑیا، شیر۔ السِّيدة (ح) بھیڑیے کی مادہ۔ السِّيدانة (ج) بھیڑیا۔

۶۔ السَّوْذَق و السَّوْذَانِق و السَّوْذَنِيق (ح) شکرا، شاہین۔ (فارسی)

○ سَادَ ۔ يَسُودُ سِیَادَةً و سُوْدُدًا و سُوْدَدَةً/ ھ: کا آقا، سربراہ، سردار، حاکم، فرمانروا، ماہر بننا یا بن جانا، پر حکومت کرنا۔ کا حاکم ہونا۔ ۔۔۔ علی: میں کا رواج ہونا۔ عام ہونا (جیسے خیال کا) پر طاری ہونا (جیسے خاموشی کا) پر تسلط رکھنا، پر تفوق ہونا۔ السيد فلان: جناب، مسٹر فلاں، سیدی فلاں، جناب، مسٹر۔ سید البحار الاعظم: بحریہ کا سپریم کمانڈر۔ سیدة جمع سیدات: گھر کی مالکہ، مالکن، بی بی، بی بی جی، بیگم صاحبہ، استانی، آپا جی، لیڈی، مسز۔ السیدةُ عقیلتُهٗ: کی بیوی، بیگم۔ سِیَادَة: کمان، پوری مہارت، پورا غلبہ، کمال، غلبہ، تسلط، برتری، تفوق، اقتدار اعلی، حکومت، حاکمیت، خطاب اور تخاطب کی ایک شکل جیسے۔ سیادتکم: جناب عالی، سیادة المُطْرَان: صاحب امتیاز۔ اسقف اعظم سیادةُ الرئیس فضیلت، عزت مآب جناب صدر۔ دولةٌ ذاتُ سِیَادَة: خود مختار، آزاد، ریاست۔ سائد: چھائی ہوئی رائج، عام (رائے، احساس، خاموشی)۔

سَوْدَنَ: سوڈانی بنانا (مصدر سَوْدَنَة)

سار: ۱۔ سَارَ ۔ يَسُوْرُ سَوْرًا الحائطَ: دیوار پر چڑھنا۔ سَوَّرَ المدینةَ: شہر کے ارد گرد، شہر پناہ بنانا۔ ۔۔۔ المرأةَ: عورت کو کنگن پہنانا۔ ۔۔۔ الحائطَ: دیوار پر چڑھنا۔ تَسَوَّرَ: کنگن پہننا۔ الحائطَ و عليه: دیوار پر چڑھنا۔ السُّوْر جمع أَسْوَار و سِیْرَان: شہر کے گرد دیوار، فصیل۔ السُّوْرَة جمع سُوَر و سُوْر و سُوْرَات و سُوَرَات: خوبصورت اونچی عمارت، مرتبہ۔ (کہتے ہیں۔ لهُ عندك سُوْرَة: تمہارے ہاں اس کا مرتبہ ہے۔ له سورة في المجد: اس کو بزرگی میں منزلت حاصل ہے)۔ فضیلت (کہتے ہیں: له علیك سُورة: اسے تم پر فضیلت ہے)۔ شرف، علامت۔ ۔۔۔ من الكتاب: کتاب کا مستقل حصہ۔ سُوْرَة: بھی کہا جاتا ہے۔ سَوْرَة المجد: بزرگی کا اثر، بزرگی کی عظمت۔ السِّوار والسُّوار والأُسوار جمع سُوُر و أَسْوِرَة و أَسَاوِر و أَسَاوِرَة و سُوُوْر: کنگن۔ السُّوَّارِي: بلندی۔ المِسْوَر و المِسْوَرَة: جمع مَسَاوِر: چمڑے کا تکیہ۔ المُسَوَّر: کلائی کا وہ حصہ جس پر کنگن ہو۔ مَلِكٌ مُسَوَّر: طاقتور بادشاہ۔

۲۔ سار ۔ سُؤُورًا و سُؤْرًا اليه: پر کودنا۔ ۔۔۔ الشرابُ في رأسه: شراب کا سر کو چکرانا۔ سَاوَرَ سِوَارًا و مُسَاوَرَةً ہٗ: ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا، حملہ کرنا۔ کہتے ہیں: ساورت الحیة الراکبَ: سانپ سوار پر کودا، اس پر حملہ کیا۔ ہٗ الشرابُ: شراب کا کسی کے سر کو چکرا دینا۔ السَّوْرَة: سار کا اسم مرۃ۔ سَوْرَةُ الخمرِ: شراب کا جوش، کی تیزی۔ ۔۔۔ السلطان: سلطان کا دبدبہ اور اسکی جارحیت ۔۔۔ البردِ: سردی کی شدت۔ سُوَار الخمرِ: شراب کی تیزی اور جوش۔ السَّوَّار: جلد متوالا ہونے والا، اپنے ہم پیالہ پر جھپٹنے والا۔ كلبٌ سَوَّار: کٹکھنا کتا۔

۳۔ السُّوْر: عمدہ اونٹ۔ کہتے ہیں۔ عنده سُوْرٌ من الابل: اس کے پاس عمدہ اونٹ ہیں۔ الأَسْوَار

والاسْوَار جمع أَسَاوِر و أَساوِرة :گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھنے والا۔ تیرانداز۔ عند الفرس :فوجی افسر۔

۴۔ السُورَنْجَان : (ن) ایک پودے کا نام پھول سفید یا گلابی موسم خریف وربیع میں دیکھنے میں آتا ہے۔

○ سُوَّر ہ : کے گرد دیوار یا جنگلے یا احاطہ بنانا، باڑ بنانا۔ سَاوَرَہٗ :پر جھپٹنا، چھلانگ لگانا، پر حملہ آور ہونا، حملہ کرنا (جذبات کا) کسی پر واقع ہونا، قابو پانا، کو قابو میں کرنا، مٹھی میں لینا۔ تَسَوَّرَ ہ : (دیوار، کھڑی چٹان وغیرہ) پر چڑھنا۔ سِوار و سُوار جمع سُوُر و أَسْوِرة و أَسَاوِرة :بازوبند، کڑا۔ کنگن، چوڑی، پہنچی۔ سُور جمع أَسْوار :دیوار، احاطہ، جنگلا۔ سُوْرَة : شدت، جوش، سختی، طاقت (سردی کی) شدت۔

سُوْرِی :شام کا، شامی جمع سوریون :شام کا رہنے والا، شام کا باشندہ۔ سُوْرِیَا :شام۔ سوریا الجنوبیة: فلسطین۔ سوریا الصغریٰ: فلسطین۔ سوریا الکبریٰ: شام (اعظم)

سوریة بمعنی سُوْرِیَا۔

ساس: سَاسَ -سِیَاسَةً الدوابَّ : جانوروں کو سدھانا، انکی دیکھ بھال کرنا۔ القومَ: قوم کے معاملات کی تدبیر کرنا، انتظام کرنا۔ و- الامرَ :کا انتظام کرنا، بجا لانا۔ صفت سائس جمع سَاسَة و سُوَّاس۔ سُوِّسَ فلانٌ امرَ القوم: فلاں کو قوم کے امور کا مختار و مالک بنایا گیا۔ أَسَاسَ هُ الناسُ :لوگوں کا کسی کو اپنا سردار، لیڈر بنانا۔ السائسُ :منتظم۔ السِیَاسَة: (مص) ملکی تدبیر و انتظام۔ ریاست کے کام اور حکومت چلانے کا فن۔ سیاست۔ اسی سے ہے۔ السیاسة الداخلیة و السیاسة الخارجیة: داخلی اور خارجی سیاست۔ السیاسة المدنیة: شہر کا انتظام، اہل شہر کی معاشی حالت کی اصلاح اور عدل وانصاف کا پورا پورا لحاظ۔ السیاسة الاقتصادیة: اقتصادی پالیسی۔ الحقوق السیاسیة: سیاسی حقوق جس سے ہر شہری کو یہ حق ہوتا ہے کہ ملک کے انتظام میں حصہ لے سکے۔ السیاسی :سیاستدان۔

۲۔ سَاسَ یَسَاسُ و سَوِسَ یَسْوَسُ وسِیسَ یُسَاسُ سَوَساً الطعامُ :کھانے میں گھن لگنا۔ ت الشاةُ: بکری کا بہت جوؤں والی ہونا۔ سَوَّسَ الطعامُ: کھانے میں گھن لگ جانا۔ أَساس الطعامُ :کھانے میں گھن لگ جانا۔ ت الشاةُ :بکری کا بہت جوں والی ہونا صفت مُسِیس تَسَوَّسَ الطعام: کھانے میں گھن لگ جانا۔ ـت الشاةُ: بکری کا بہت جوں والی ہونا۔ السَّاسُ اصل اسکی سانس ہے۔ کتایا کھایا ہوا۔ السُوس واحد سُوسَة (ح) اون یا لکڑی کا کیڑا، گھن، ہر چیز کا کھانے والا۔

۳۔ سَوَّسَ لهُ أمراً : کے سامنے کسی چیز کی تعریف کے پل باندھنا، اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔

۴۔ السُوس :اصل، طبیعت (کہتے ہیں۔ الفصاحة من سوسه : فصاحت تو اس میں فطری ہے) (ن) ملٹھی کا درخت۔ السَوَس :جانور کے سرین کی بیماری۔ الأَسْوَسُ من الدوابّ: جانور جسے سرین کی بیماری ہو۔ السُوَاس :گھوڑے کی گردن کی ایک بیماری جو گردن کو سکھا دیتی ہے۔

۵۔ السَوْسَن : (ن) سوسن: (lily)

۶۔ السُوسیولوجیا : عمرانیات۔

○ سیاسة: ایڈمنسٹریشن، منیجمنٹ، پالیسی۔ السیاسة الدَّوْلِیَة: ڈپلومیسی۔ السیاسة العملیه: عملی پالیسی Real- politik سیاسة التوسع :توسیع پسندی کی پالیسی۔ سیاسی: سیاسی ڈپلومیٹک جمع سیاسیون و سَاسَة: سیاستدان، ڈپلومیٹ، سٹیٹسمین (مدبر) States man الدوائر السیاسیة: سیاسی حلقے۔ السِلک السیاسی: ڈپلومیٹک کور۔ علم الاقتصاد السیاسی :پولیٹیکل سائنس۔ سَائِس جمع سَاسَة و سُوَّاس و سُیَّاس: سائیس، منتظم، رہنما، لیڈر۔ السُوَیس: سویز (مصر کی بندرگاہ) قنال السُوَیس: نہر سویز۔ سُوس: (اسم جنس واحد سُوسة) جمع سِیسان: گھن، کیڑا۔ سُوس: ملٹھی۔ عرق سوس: ملٹھی کی جڑ۔ رُبّ السُوس: ملٹھی کا عرق یا رس۔

ساط: ا۔ سَاطَ -سَوْطاً الشیءَ: مخلوط کرنا۔ الأمرَ: کو تہ وبالا کرنا، الٹ پلٹ کرنا۔ --- هُ: کو کوڑے مارنا۔ سَوَّطَ الأمرَ: کو غلط ملط کرنا۔ الکُرّاثُ: گندنا کا شاخیں نکالنا۔ اسْتَوَطَ الامرُ: پیچیدہ ہونا، گڈمڈ ہونا۔ السَوْط (مص) جمع أَسْوَاط و سِیَاط: کوڑا، چابک، نصیب، حصہ، سختی، پانی جمع ہونے کی جگہ۔ کہتے ہیں۔ هما یتعاطیان سوطاً واحداً: وہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں اور ایک ہی ڈھب استعمال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ وعدُهُ سوطُ باطلٍ: اس کا وعدہ نہ تو قائم رہتا ہے نہ وہ اس پر ٹکتا ہے۔ السِیاط: گندنا کی شاخیں۔ السَوّاط: کوڑے والا سپاہی۔ السَوِیط م سَوِیطة: مخلوط کہتے ہیں۔ اموالهم سَوِیطة بینهم :ان کے مال آپس میں مخلوط ہیں۔ والمِسْواط :وہ گھوڑا جو چابک کے بغیر نہ چلے۔ ---- والمِسْوَط: وہ لکڑی وغیرہ جس سے چیزوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ گھوٹنا۔ المُسَیاط: حوض کے پیندے میں بچا ہوا پانی۔

۲۔ سَاطَ -سُوطاً الحروبَ : جنگ برپا کرنا۔ سَوَّطَ الحروبَ :جنگ برپا کرنا، شروع کرنا۔

۳۔ سَاطَ -سَوَطَانًا نفسُهُ : مرجھانا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ سَاطَ اللبنُ ونحوه: دودھ پتلا پانی ہوگیا۔ صفت: سَائِط۔

۵۔ سَوْطَرَ بمعنی سَیْطَرَ۔

ساع: ا۔ سَاعَ -سَوْعًا الشیءُ : ضائع ہونا، زائل ہونا۔ ت الإبلُ: اونٹوں کا بغیر چرواہے کے آزادی سے چرنا۔ أَسَاعَ اساعةً الشیءَ: کو بیکار چھوڑنا، ضائع کرنا۔ السَائِع جمع سَاعَة: ہلاک ہونے والا۔ رجلٌ مِسیاعٌ و مُسِیعٌ للمال :فضول خرچ مال کو ضائع کرنے والا۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ هُو مضیاعٌ مِسْیاع وهو مُضیعٌ مُسِیعٌ۔

۲۔ سَاوَعَ مُسَاوَعَةً و سِوَاعًا هُ : گھنٹے بھر کے لئے کسی سے معاملہ کرنا۔ الرجلُ: ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔ أَسْوَعَ اسْوَاعًا: ایک گھنٹہ موخر ہونا، ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔ السَاعَة جمع سِیاع و سَاعَات (تصغیر سُوَیعَة) گھنٹہ (۶۰ منٹ کا وقت) موجودہ وقت (کہتے ہیں: اقضني حقي الساعةَ: مجھے میرا حق ابھی دو) گھڑی (جس سے وقت معلوم کیا جاتا ہے) (الساعةُ الرملیّةُ :ریت گھڑی۔ الساعةُ الشمسیة: دھوپ گھڑی) قیامت یا وہ وقت جب قیامت برپا ہوگی۔ السَوْعُ و السُوَاع : رات کا ایک پہر۔ ساعةٌ سَوْعَاء: سخت، کٹھن وقت۔ السَوَاعِیة: رومیوں کے نزدیک نماز کے فرائض کی کتاب۔

○ بین ساعة واخری: ایک گھنٹہ سے دوسرے گھنٹہ تک۔ حتی الساعة: اب تک من الساعة: اب سے آگے، اب سے، آج سے، آج کے بعد۔ من ساعته : فوراً، فی الفور۔ منذ الساعة : اب سے، آج کے بعد۔ مات لِسَاعَتِه: وہ فوراً مر گیا۔ ساعةُ الجَیبِ :جیب گھڑی۔ ابن ساعته: عارضی، چند روزہ، ناپائیدار۔ سَاعَتَئِذٍ: اُس وقت۔ ساعاتی: گھڑی ساز۔

ساغ: ا۔ سَاغَ -سَوْغًا و سَوَاغًا و سَوَغَانًا الأمرُ : جائز ہونا۔ صفت۔ سائغ۔ الشرابُ: آسانی سے گلے سے اترنا۔ صفت۔ سائغ و سَیِّغ و أَسْوَغ: کہتے ہیں۔ ساغ لي الشرابُ: مشروب میرے لئے خوشگوار ہوا۔ سُوْغاً و سَاغَ -سَیْغًا الشرابَ: مشروب کو خوشگوار بنانا۔ اساغه: کھنا زیادہ بہتر

ہے۔ سَوَّغ الأمرَ: کوجائز کرنا۔ لہ کذا: کوکچھ دینااوراس کے لئے خاص کرنا۔ اَسَاغَ الطعامَ او الشرابَ: کھانے یامشروب کوخوشگوار بنانا۔ کہتے ہیں۔ أسِغ لي غُصّتي: مجھے مہلت دو۔ اِستَساغَ الشرابَ: مشروب کوخوشگوار بنانا۔ کہتے ہیں۔ السَّیِّغ مِن الشراب: خوشگوار مشروب۔ السِّوَاغ: حلق کے پھندے کودور کرنے والی شئے۔ کہتے ہیں۔ الماءُ سِواغ الغصص: پانی با آسانی حلق میں چلا جاتا ہے۔

۲۔ سَاغَ - سُوُغًا بہ الأرضَ: کا زمین میں دھنسنا۔ کودھنسا دینا۔

۳۔ أسْوَغَ اِسْوَاغًا الصبيُّ اخاہُ: بچے کا اپنے بھائی کے ساتھ یا اس کے بعد پیدا ہونا۔ چنانچہ سوغہُ و سُوغَتہُ و سَیِّغُہُ: کا معنی ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ یا اس کے بعد پیدا ہونے والا اور پیدا ہونے والی۔ (مذکر و مونث)

○ ساغ - سُوغًا و مَسَاغًا (مشروب یا کھانے کا) آسانی سے اور خوش گوار طور پر نگلا جانا یا گلے سے نیچے اتر جانا۔ لہ: کے لئے جائز ہونا۔ ۔۔ ہ: کو نگلنا، کی اجازت دینا، کو قبول کرنا۔ برداشت کرنا۔ سَوَّغ ہ لِ: کو کے لئے جائز کرنا، کی کو اجازت دینا۔ سَوَّغ ہ: کو قبول کرنا۔ ہ: کا جواز پیش کرنا، کی توجیہ کرنا (ب کے ذریعے، سے) ۔۔ ہ: کو پٹہ پر لینا، دینا، کرائے پر دینا، کرائے پر اٹھانا۔ اَسْوَغ ہ: کو آسانی سے نگلنا، کی تائید کرنا، کا حامی ہونا، کو برداشت کرنا۔ استساغ ہ: کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، کو مناسب سمجھنا۔ مَسَاغ: آسان رسائی، امکان، اجازت۔ لم یستطع مساغًا: وہ اسکو برداشت نہ کرسکا وہ اس پر راضی نہ ہوسکا، وہ اس پر یقین نہ کرسکا۔ لامَسَاغَ للشک: اس میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ قانون القرض والتسویغ: Lend-Lease Act سَائِغ: مزیدار، لذیذ، خوش ذائقہ، نگلنے میں آسان، جائز۔ مُسَوِّغ جمع مُسَوِّغات: جواز، توجیہ، جواز یا توجیہ کا عامل، معقول وجہ۔ مُستَساغ: نگلنے میں آسان، مزیدار، خوش ذائقہ۔

ساف: ۱۔ سَافَ - سُوفًا المالُ: مال ہلاک ہونا، جانوروں پر مری پڑنا۔ أَسَافَ اِسَافَۃً: کا مال ہلاک ہو، کی اولاد مرنا۔ مُسِیف: جس کی اولاد مرگئی ہو۔ مُسَاف: بیٹا جو مرگیا ہو۔ ۔۔ ہُ اللّٰہُ: کو اللہ کا ہلاک کرنا۔ السَّوَاف والسُّوَاف: جانوروں کی بیماری، مری۔ کہتے ہیں۔ وقع في المال سَوَافٌ: مال میں موت واقع ہوئی۔ اس سے ضرب المثل ہے: أُساف حتی مایشتکي السُّوافَ: یہ اس شخص کے بارے میں بولتے ہیں جو سختیوں کا خوگر ہو گیا ہو۔ المِسْیَاف: وہ عورت جس کا بچہ مرگیا ہو۔

۲۔ سَافَ - سُوفًا علیہ: پر صبر کرنا۔ سَوَّفَ ہُ: کو ٹالنا، بار بار کہنا کہ عن قریب کردوں گا۔ ۔۔ ہُ الامرَ: کو کسی معاملہ میں پورا اختیار دینا۔ سَاوَفَ مُسَاوَفَۃً ہُ: کو ٹالنا، سے ٹال مٹول کرنا۔ سَوْفَ: مبنی بر فتح، مضارع کو زمانہ مستقبل کے لئے خاص کرتا ہے اور حرف "سین" سے اس کا زمانہ لمبا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں۔ فلانٌ یقتات السَّوْفَ: یعنی وہ امیدوں پر جیتا ہے۔ سوف لایفعل: کہنا غلط ہے۔ اس کے بجائے لن یفعل: کہنا چاہئے۔ (وہ نہیں کرے گا) کے معنی میں۔ المُسَوِّف (فا) صابر، خودمختار۔

۳۔ سَافَ - سَوْفًا الشيءَ: کو سونگھنا۔ سَاوَفَ مُسَاوَفَۃً ہُ: کو سونگھنا۔ اِستَافَ اِستِیَافًا الشيءَ: کو سونگھنا۔ المَسَاف: ناک۔ والمَسَافَۃ جمع مَسَاوِف والسِّیفۃ: دوری کہتے ہیں۔ کم مَسَاف ہذہ الأرض و مسافتُہا و سِیفتُہا: یہ زمین کتنی دور ہے؟ بینہم مَسَاوِف و مَرَاحِل: ان کے درمیان دوریاں ہیں۔ المُسْتَاف: سونگھنے کی جگہ مسافت طے کرنے والا۔

۴۔ سَاوَفَ مُسَاوَفَۃً ہُ: کو بھید سے آگاہ کرنا۔

۵۔ السَّاف (ج): ایک شکاری پرندہ۔ والسَّافۃ جمع آسُف و سَافَات: گارے یا اینٹوں کا ردا۔ والسُّوفۃ جمع سُوَف و سُوف: ریتلی اور سخت زمین کے درمیان کی زمین۔ السَّائفۃ: باریک ریت ریتلی اور سخت زمین کے درمیان کی زمین۔

۶۔ السوفیات: مزدوروں، کسانوں اور فوج کے نمائندوں کی مجلس جو روسی انقلاب کے نتیجہ میں قائم ہوئی۔ دولۃ السوفیات یا الدولۃ السوفیاتیۃ یا روسیا السوفیاتیۃ: سوویٹ روس یا سوویٹ ریاست۔

○ سَوَّفَ ہُ: کو عذر پیش کرکے ٹال جانا۔ ۔۔ ہ: کو ملتوی کرنا، قلمزن کرنا، میں تاخیر کرنا، کو ڈھیل دینا، معرض تعویق میں ڈالنا۔ سَوْفَ تری: تم دیکھوگے۔ علی مَسَافۃ: سے کچھ فاصلہ پر، سے کچھ دور۔ تَسْوِیف: التواء، تعویق، تاخیر، موقوفی۔ تَسْوِیفي: تاخیری، تعویقی۔ سُوفِسْطائي: مغالطہ آمیز۔ سُوفِیاتي، سوفیتي سُوفِیتِي: سوویٹ (صفت) الاتحاد السوفیاتي: سوویٹ یونین۔

ساق: ۱۔ سَاقَ - سَوقًا و سِیَاقًا و سِیَاقَۃً و مَسَاقًا الماشیۃَ: جانور کو پیچھے سے ہانکنا۔ (اس کے مقابل قادھا آتا ہے) سَائِق جمع سَاقَۃ و سُوَّاق و سائقون: ہانکنے والا۔ مَسُوقَۃ: جسے پیچھے سے ہانکا جائے۔ ساق السَّیّارۃَ: کار ڈرائیو کرنا۔ سائق السَّیّارۃ: کار ڈرائیور کہتے ہیں۔ ساقہ مَسَاق غیرہ: اس کے ساتھ غیر کا سا معاملہ کیا۔ الحدیثَ: بات بیان کرنا۔ الیہ المالَ: کو مال بھیجنا۔ کو کے سامنے پیش کرنا۔ مِن امرأتہ: عورت کو مہر دینا۔ المریضُ نفسَہُ عندالموت و سِیقَ (علی المجھول) جان کنی شروع ہونا۔ سَوَّقَ ہُ الأمرَ: کو معاملہ کا مختار کرنا، کو کام سپرد کرنا۔ الماشیۃَ: جانور کو پیچھے سے ہانکنا۔ سَاوَقَ ہُ: ہانکنے میں کسی کے مقابلہ میں فخر کرنا۔ اَساقَ اِسَاقَۃً و اِستَاقَ اِستِیَاقَۃً ہُ الماشیۃَ: کو ہانکنے کے لئے مویشی دینا۔ تَسَوَّقَ: خرید و فروخت کرنا۔ تَسَاوَقَتِ الماشیۃُ: مویشیوں کا قطار میں چلنا، چلنے میں بھیڑ کرنا۔ اِنْسَاقَ: ہانکا جانا۔ ۔تِ الابلُ: اونٹوں کا قطار میں چلنا۔ اِستَاقَ اِستِیَاقًا الماشیۃَ: مویشیوں کو ہانکنا۔ السَّاقۃ: جلو، فوج کا پچھلا حصہ کہتے ہیں۔ فلانٌ في ساقۃ الجیش: فلاں فوج کے پچھلے حصہ میں ہے۔ اس کا نقیض مقدمہ ہے۔ السُّوق جمع أسْوَاق: بازار، منڈی۔ (مذکر و مونث) سُوقُ الحرب: میدان جنگ۔ السُّوقۃ: رعیت، عوام (مذکر و مونث اور جمع) السَّوَّاق: ہانکنے والا، ڈرائیور۔ السَّیِّق من السحاب: خشک بادل جس کو ہوا اڑا لائے۔ السَّیِّقۃ جمع سَیَائِق و سَیِّقَات: وہ مویشی جن کو دشمن ہانک لے جائے۔ کہتے ہیں۔ المرءُ سَیِّقَۃُ القَدَر: آدمی قضاوقدر کے رحم و کرم پر ہے۔ السِّیَاق (مص) عورت کا مہر۔ سِیاق الکلام: اسلوب کلام کہتے ہیں۔ وقعت ہذہ العبارۃ في سیاق الکلام: یہ عبارت سلسلۂ کلام میں آگئی۔ المُسَوَّق: وہ اونٹ جس کی اوٹ میں شکار کو دھوکا دیا جائے۔ المُسَاوِق عند التجار: ایک ایک کرکے اشیاء کا خریدار۔ المُنْسَاق: تابع، نزدیک، لمبی ڈھلوان والا پہاڑ۔

۲۔ سَاقَ - سُوقًا و سِیَاقَۃً ہُ: کی پنڈلی پر مارنا۔ سَوِق یَسْوَق سَوَقًا: خوبصورت اور موٹی پنڈلی والا ہونا۔ سَوَّقَ النبتُ: پودے کا تنددار ہونا۔ السَّاق جمع سُوق و سِیقَان و أَسْوُق (ع ا) پنڈلی (مونث) کہتے ہیں۔ کشف الامرُ عن ساقِہ: معاملہ سنگین ہوگیا۔ قامت الحرب علی ساق: جنگ میں تیزی اور شدت آگئی، گھمسان کی جنگ شروع ہوگئی۔

ولـدت الـمـرأةُ ثلاثةَ بنين علی ساق واحدة : عورت نے یکے بعد دیگرے تین بیٹوں کو جنم دیا جن کے درمیان کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی ۔ (ن) ، تنہ۔ ساق الشجرة : درخت کا تنہ۔ ۔ البندقية : رائفل کا مڑے ہوئے دستہ کا نچلا حصہ۔ السَوَق: پنڈلی کی لمبائی۔ السَوْقَاء: لمبا بوٹ۔ الاُسْوَق م سَوْقَاء جمع سُوق : لمبی پنڈلی والا۔ السُوَّاق : لمبی پنڈلی والا۔ تنے پر قائم پودا۔

۳۔ساقُ حُرّ : (ح) زقمری۔ السَوِيْق جمع اَسْوِقَة: ستو۔ شراب۔ السَوَّاق: ستوفروش۔ ستو بنانے والا۔

○ ساق۔ سَوْقاً و سِياقَةً و مَسَاقًاه / ہ : کو ہانکنا۔ للجُنْدِيَة: فوج میں جبری بھرتی کرنا۔۔ ہ (گاڑی وغیرہ) چلانا، ڈرائیو کرنا۔ (ہوائی جہاز) چلانا۔ ہ کو ساتھ لے جانا، لے جانا، کی نقل و حمل کا انتظام کرنا۔ ہ الـــی کو کے پاس بھیجنا، کو کے سپرد کرنا۔ہ : (کچھ) کہنا، بیان کرنا۔۔ ہ: کا حوالہ دینا، کا قول پیش کرنا، سے اقتباس پیش کرنا، کو پیش کرنا۔ ســاق مَـســاقَـهُ: کے نقش قدم پر چلنا، کی مثال پر عمل کرنا۔ ساق الحديثَ : بات جاری رکھنا۔ ساق الحديث الی : کو مخاطب کرنا۔ اليك يُساق الحديث : آپ ہی سے مطلب ہے۔ اجـازة السَوق : ڈرائیونگ لائسنس۔ سَوقِية : فن لشکر کشی۔ رَبْطَةُ الساق : گیٹس۔ وقف عـلـی ساق الجدّل : کی طرف اپنی سرگرمی موڑنا، کو تندہی سے کرنا، کی کوشش کرنا، جدوجہد کرنا۔ عـلـی قـدم وسـاقٍ : پورے زور شور سے۔ ارسل سقهٔ للريح : ٹانگیں سر پر رکھ کر بھاگنا۔ السوقُ الحـرّة : آزادی منڈی۔ الـسـوق الاسود : بلیک مارکیٹ۔ السوق المُشترك : مشترکہ مارکیٹ۔ سوق النقد: شاک ایکسچینج۔ اسواق المحصولات : زرعی پیداوار کی منڈیاں۔ سـوق عـقـود القطن : کاٹن ایکسچینج۔ سُــوقَة: بھیڑ، ہجوم، ارازل، عوام، عوام الناس۔ سِيــاق : اوپر نیچے کی عبارت، سیاق وسباق، سلسلہ بیان، سیاق عبارت (Context) سلسلہ، ترتیب، لڑی (گفتگو کی)۔ مَسَاقُه الی : مطلب یہ ہوا کہ، گویا کہ۔ مسق من الدراسات : مطالعاتی نصاب افـصـنـی بنا المساقُ الی : ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں۔ تـســويــق : مارکیٹنگ، تجارتی اشیاء کی فروخت۔ تَسْوِيــقــه : سودا، معاملہ، فائدہ بخش خریداری۔ تـســاوق : ربط، پیوستگی، باہمی تعلق، تعلق، ہم آہنگی۔ ســائــق : ہانکنے والا، ہانکنے والی قوت جمع سـائـقـون و ساقه : ہانکنے والا (جانوروں کو) ڈرائیور (گاڑی کا) پائلٹ (ہوائی جہاز کا)۔ساك ۔ سَوكاً و سَـوَّكَ الشــیءَ : کو ملنا، رگڑنا۔ اسی سے ہے۔ سَوَّكَ الاسنانَ بالعود: اس نے دانتوں کو لکڑی سے رگڑا، مسواک کی۔ تَسَوَّكَ تَسَوُّكـاً و اسْتَـاكَ استـيـاكـا : مسواک کرنا۔ السِوَاك جمع سُوُك والمِسْوَاك: جمع مَساويك: مسواک۔

۲۔سَاكَ ۔سِواكاً و تَساوَكَ : آہستہ اور کمزور چلنا۔

۳۔سَوْكَرَ الرسالةَ فی اصطلاح العامة: عام لوگوں کی بولی میں، چٹھی کی رجسٹری کرانا۔ ہ: (سامان) کی انشورنس کرانا، بیمہ کرنا یا کروانا۔

○ مُسَوْكَر : بیمہ شدہ، رجسٹری شدہ (چٹھی)

سال: ا۔سَوِلَ يَسْوَلُ سَوَلاً: پیٹ کا ناف کے نیچے سے ڈھیلا ہونا۔ صفت۔ اَسْوَل م سَوْلاء جمع سُول: نَسَوَّلَ البطنُ: پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔

۲۔سَوَّلَ لَهُ الشيطانُ : شیطان کا کسی کو گمراہ کرنا اور کچھ کرنے پر ورغلانا، پھسلانا، بہکانا کہتے ہیں۔ هـذا من تسويلات الشيطان : یہ شیطان کا ایک بہکاوا ہے۔ سَوَّلَتْ له نفسُهُ كذا: وہ ایسا کرنے میں بہکاوے میں آ گیا، بہک گیا۔

۳۔سال۔ سُوَالاً و سَوَالا : سَأَلَ کا مخفف اور اُسی کے معنی میں آتا ہے۔ السُــوْل: سُؤْل کا مخفف۔ السُولَة: بہت سوال کرنے والا۔

۴۔السَوْلاء : بڑا ڈول۔ السَوِيل: برابر کا۔ کہتے ہیں۔ انـا سَوِيلك فی هذا الامر : میں اس معاملہ میں تمہارے برابر کا ہوں۔

○ سَوَّلَ ل ہ: کو کسی بدی یا دوررس نتائج والی بات کے حق میں قائل کرنا۔ تَسَوَّلَ (تَسَأَّل) : بھیک مانگنا۔ تَسَــوُّل: بھیک، مانگنا، سخت افلاس، سخت ناداری۔ مُتَسَوِّل جمع مُتَسَوِّلون: بھیک مانگنے والا، بھکاری، منگتا۔

سام: ا۔سَامَ ۔سَوْماً و سُوَاماً السِلْعَةَ : سامان کو فروخت کرنے کے لئے پیش کرنا اور اسکی قیمت بتانا۔ المُشتری السِلْعَةَ: خریدار کا سامان یا چیز کا بھاؤ کرنا۔ کہتے ہیں۔ سَام بِـسـلعتهِ كذا و كذا : اس نے سامان کی قیمت بتائی اور اس کی بہت زیادہ قیمت طلب کی ۔۔ ناقتهُ علی الحوض : اونٹنی کو حوض پر لانا۔ ـــ البيضةَ : انڈے کو اپنے دانتوں پر بجا کر اسکی سختی پرکھنا (عام بول چال)۔ سَاوَمَ سِواماً و مُسَاوَمَةً بالسِلعة: سامان کا بھاؤ تاؤ کرنا۔ تَسَاوَمَ ما السِلعة: سامان کا بھاؤ تاؤ کرنا۔ تـسـاومـا السِّلعة: سودا کرنے میں جھگڑنا۔ ــــ فی السلعة سودے کا بھاؤ تاؤ کرنا۔ اسْتَامَ فـلانـاً السِلعةَ : سامان کی قیمت دریافت کرنا۔ ۔۔ بهـا: سامان کو زیادہ قیمت پر فروخت کرنا۔

۲۔سَامَ ۔سَوْماً و سُواماً الأمْرَ : کو کسی کام کی تکلیف دینا۔ ۂ خسفاً: کو ذلیل کرنا، خوار کرنا۔ سَوَّمَ ۂ الأمْرَ: کو کسی کام کی تکلیف دینا، اس کے ذمہ لگانا۔ ۔۔ ۂ فی مـا يـملكه: کو اپنی چیز کا پورا اختیار کر دینا۔ میں ثالث بنانا۔

۳۔سَامَ ۔سَوْماً و سُوَاماً ت الماشِيةُ : مویشی کا چراگاہ کو جانا۔ الطِيرُ علی الشیءِ: پرندہ کا کسی چیز پر منڈلانا۔۔ ت الـريـحُ: ہوا کا چلتا رہنا۔ سَوَّمَ فـلانـاً : کو آزادی دیکر اسکی مرضی پر چھوڑنا۔ مثل ہے۔ عبدٌ و سُوِّمَ : آزاد چھوڑا ہوا غلام۔ یہ مثل اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی کمینہ کو پوری آزادی دیدی جائے۔ الخيلَ : گھوڑوں کو بھیجنا، چھوڑنا، چرنے کے لئے چھوڑنا۔ ـ عليهم : پر لوٹ ڈال کر تباہی پھیلانا۔ اَسَــامَ اسَامَةً الماشيَةَ : مویشی کو چراگاہ کی طرف نکالنا۔ اليه ببصره: پر نظر ڈالنا۔ السَائِم (فا): خود سری سے چلنے والا، چرواہا۔ السَائِمَة والسَوَام جمع سَوَائِم : چرنے والے مویشی اور اونٹ۔ السُوَام (ح) ایک پرندہ۔ المَسَام: تیزی سے گزرنا۔ الخيلُ المسَرَّمَة: چرائے ہوئے یا چھوڑے ہوئے گھوڑے۔

۴۔سَوَّمَ الفرسَ : گھوڑے پر داغ لگانا۔ تَسَوَّمَ: نشان لگا ہونا۔ السِيمة و السُومَة والسِيماء والسِيْمَی: علامت، شکل وہیت کہتے ہیں۔ فيه سُومَةُ الصلاح و سِيمتهُ: اس میں صلاحیت کی علامت ہے۔ السِيْميا والسِيْمِيَاء: علامت۔ خوبصورتی۔ المُسَوَّم : اچھی ساخت کا، نشان زدہ۔

۵۔السَــام واحد سَــامَةَ : موت۔ (ن) بانس، نرکل۔ السامة : موت، سونے یا چاندی کا ٹکڑا۔ جمع سِيَم : کنویں کے اوپر کا گڑھا۔ المَسَامة: دہلیز کی لکڑی۔

○ سَامَ ۔سَوْماً ہ: (سامان تجارت) فروخت کے لئے پیش کرنا۔ ۂ ہ: پر کوئی سزا عائد کرنا یا کے ذمے کوئی کام لگانا۔ ہ ہ: پر کوئی مشکل کام ڈالنا۔ ہ ہ: سے کوئی ایسا کام کرنے کو کہنا جو اس کے بس کا نہ ہو۔ ہ خَسْفاً : پر ظلم کرنا، کو ذلیل و خوار کرنا۔ سَوَّمَ ہ ہ: پر کوئی مشکل کام ڈالنا، کو کوئی مشکل کام کرنے پر مجبور کرنا، کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہنا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ ہ: کسی چیز کی قیمت متعین کرنا، یا اس کا اندازہ لگانا۔ ہ: کسی چیز پر نشان لگانا، کو کوئی نشان دینا۔ سَاوَمَ ہ : سے سودا کرنا، معاملہ طے کرنا۔ ـــ

ب/ علی/ فی (کی قیمت پر) بول تول کرنا۔ تَسَاوم فی: پر سودا کرنا، بول تول کرنا۔ استام علی / فی / ب: پر سودا کرنا۔ سومطرة: سماترہ اسوان: مصر کا ایک شہر۔ سُوهَج دریائے نیل پر وسطی مصر کا ایک شہر۔

سوی: ا۔ سَوِیَ یَسْوَی سِوًی الرجُلُ: کا کام درست ہونا۔ سَوَّی الشَّیءَ: کو ہموار کرنا، برابر کرنا، سیدھا کرنا (مطلقاً بنانے اور مرنے کے معنی میں بھی آتا ہے) سَوَّیتُ المعوَجّ فما استوی: میں نے ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا چاہا مگر وہ سیدھی نہیں ہوئی۔ بینهما: کو برابر کرنا کہتے ہیں۔ سُوِّیَت علیه الارضُ: وہ ہلاک ہوا اور دفن کر دیا گیا۔ سَاوَیَ الشَّیءَ: کو برابر کرنا۔ کہتے ہیں۔ هذا لا یساوی درهما: یہ درہم کے برابر نہیں۔ ـ بینهما: کو برابر کرنا۔ ـ هُ به: کو کے برابر کرنا۔ ـ الرجلُ قِرنَهُ: کے ہم مثل ہونا۔ قدر قیمت میں ایک جیسا ہونا۔ علم یا بہادری میں کسی کو جا لینا۔ أَسْوَی اسْوَاءً: کا کام درست ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو ہموار و برابر کرنا۔ ـ هُ به: کو کے برابر کرنا۔ تَسَوَّی: ہموار و برابر ہونا۔ کہتے ہیں۔ تَسَوَّت به الارضُ: وہ ہلاک ہو کر زمین میں دفن ہو گیا۔ تَسَاوَیا فی کذا: میں ہم مثل ہونا۔ اِسْتَوَی: درست ہونا۔ الشیءُ: معتدل و مستقیم ہونا۔ کہتے ہیں۔ سَوَّیتُ الشیءَ فاستوی: میں نے اس چیز کو ہموار کیا تو وہ ہموار ہو گئی۔ ـ الرجلُ: کا کام درست ہونا۔ پکی عمر کا ہونا۔ علیه: پر غالب آنا۔ علی ظهر الدابة: جانور کی پیٹھ پر جم کر بیٹھنا۔ کہتے ہیں۔ استوی علی سریر المُلک: یعنی وہ ملک پر پوری طرح قابض و متصرف ہوا۔ ـ ت به الارضُ: وہ ہلاک ہو کر زمین میں مدفون ہوا۔ ـــ الطعامُ: کھانے کا خوب پکنا۔ السَّوَاء: برابر، مثل (کہتے ہیں: هما فی هذا الامر سَوَاءٌ: وہ دونوں اس معاملہ میں برابر ہیں۔ آپ سواء ان بھی کہہ سکتے ہیں۔ جمع میں هم سَوَاءٌ یا هم أَسْوَاءٌ ہیں کے اور خلاف قیاس۔ هم سَوَاسٍ و سَوَاسِیَه و سَوَاسِوَة یعنی برابر ہیں۔ کہتے ہیں۔ مررتُ برجل سواءٍ والعدمُ: میں ایک شخص کے پاس سے گزرا جس کا وجود و عدم وجود برابر ہیں)، درمیان، بیچ کہتے ہیں۔ ضَرَبَ سَوَاءَه: اس نے اس کے وسط میں مارا۔ و لقیتهُ فی سَوَاءِ النهار: میں اس سے وسط دن میں ملا۔ غیر کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے جاؤوا سَوَاءَ زیدٍ: زید کے سوا سب آئے اور مستوی کے معنی میں بھی جیسے مکانٌ سواءٌ و ثوبٌ سواءٌ

طول و عرض میں برابر جگہ یا کپڑا۔ هذا درهمٌ سَوَاءٌ: یہ پورا درہم ہے۔ سَوَاء السبیل: سیدھا راستہ۔ سَوَاءُ الجبل: پہاڑ کی چوٹی۔ لیلةُ السواء: تیرھویں یا چودھویں رات کیونکہ ان راتوں میں چاند پورا دکھائی دیتا ہے۔ اگر سواء کے بعد ہمزہ تسویہ آئے تو دونوں لفظوں کے ساتھ ام استعمال کرنا ضروری ہے، خواہ لفظ اسم ہوں یا فعل جیسے سواءٌ علیَّ أَزیدٌ جاء اُم عمرو: میرے لئے برابر ہے یا یکساں ہے، خواہ زید آیا یا عمرو یعنی ان دونوں میں سے کسی کے آنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اور جیسے۔ سواءٌ علیَّ أَقُمتَ اُم قعدت: تمہارا کھڑا ہونا یا بیٹھنا میرے لئے یکساں ہے۔ اگر اس کے بعد همزۂ تسویه کے بغیر دو فعل ہوں تو دوسرے کو او سے معطوف بنایا جائے گا۔ جیسے سواءٌ علی قمت او قعدتَ: میرے نزدیک تمہارا کھڑا ہونا یا بیٹھنا یکساں ہے اور اگر اس کے بعد مصدر آئیں تو دوسرے کو واو یا او سے معطوف استعمال کیا جائے گا۔ جیسے سواءٌ علی قیامُك و قعودُك و قیامُك او قعودُك: میرے لئے تمہارا کھڑا ہونا اور بیٹھنا یا میرے لئے تمہارا کھڑا ہونا یا بیٹھنا یکساں ہے۔ السِوَی والسُوَی: درمیان وسط سواء کی طرح بمعنی غیر جو استثناء کے لئے آتا ہے جیسے جاؤوا سِوَی زیدٍ: زید کے سوا سب آئے۔ عندی رجل سِواك: میرے پاس تمہاری جگہ تمہارے بدلہ میں ایک آدمی ہے۔ کہتے ہیں۔ مررتُ برجلٍ سَوَاءٍ والعدمُ: میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا جس کا وجود یا عدم وجود برابر ہے۔ کہتے ہیں۔ هما علی حَذِسِوَی: ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ السَوِیّ جمع أَسْوِیَاء: برابر ہموار، برابری، انصاف۔ مکانٌ سَوِیّ: درمیانی جگہ۔ غلامٌ سَوِیّ: بے عیب اچھی ساخت کا لڑکا۔ السَوِیَّة جمع سَوَایَا: سَوِی کا مونث۔ غریب لوگوں کی سواری، برابری، کہتے ہیں۔ هم علی سَوِیَّةٍ فی هذا الامر: وہ اس معاملہ میں برابر ہیں۔ قسمتُ الشیءَ بینهما بالسَوِیَّة: میں نے ان دونوں کے درمیان چیز برابر، برابر بانٹ دی۔ السِیّ جمع أَسْوَاء: برابر، مانند۔ (هما سِیَّان: وہ ہر دو ایک جیسے ہیں۔ مونث کے بارے میں کہتے ہیں۔ ما هی بِسِیّ لك ولیست المراة لك بِسِیّ وما هن لك باسواءٍ: وہ عورت تم جیسی نہیں یا وہ عورتیں تم جیسی نہیں)۔ بیابان۔ مکانٌ سِیٌّ: ہموار برابر جگہ۔ لا سِیَّما و لا سِیَمَا: خاص کر۔ استثنیٰ کے معنی میں آتا ہے کبھی اس کا لا حذف کر دیتے ہیں۔

الأسوی: اسم تفضیل کہتے ہیں۔ هذا المکان أسوی هذه الامکنة: یہ جگہ ان سب جگہوں سے زیادہ معتدل ہے۔ الاستواء: استوی کا مصدر: راستی، درستی، اعتدال۔ خط الاستواء عند الجغرافیین: جغرافیا دانوں کی اصطلاح میں کرۂ زمین پر وہ دائرہ عظیمہ جو مشرق سے مغرب کو قطبین سے برابر فاصلہ پر کھینچا ہوا فرض کیا گیا ہے اور جو کرۂ ارض کو دو برابر شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس خط پر تمام سال دن و رات برابر رہتے ہیں۔

۲۔ أَسْوَی اسوَاءً: ذلیل و حقیر ہونا۔

۳۔ اِسْتَوَی الی الشیءِ: کا قصد و ارادہ کرنا۔ السَّوَی: قصد، ارادہ۔

○ علی حَذِ سِوًی: یکساں، برابر، ایک سا وہی، ویسا ہی، ملا جلا۔ فضّله علی سِواه: اس نے ہر ایک دوسرے شخص پر اس کو ترجیح دی۔ لیس - سوی، لا - سوی: صرف۔ سواءً بسواءٍ: یکساں طور پر، بلا امتیاز، بلا تمیز، اکٹھے۔ علی السواء: اسی طرح، اس انداز سے، یکساں طور پر، بلا تمیز، بلا امتیاز، پھر بھی، تاہم۔ سَوِیًّا: مشترک، مشترکاً، اکٹھے، مشترکہ طور۔ تسویة: تصفیہ (بل کی) ادائیگی، جھگڑوں کا چکانا۔ تحت التسویة: حل طلب، واجب الادا، نا ادا شدہ۔ بالتساوی۔ علی التساوی: اسی طرح، یکساں طور پر باقاعدگی سے۔ مُسْتَوًی: سطح، معیار۔ مُسْتَوَی الماء: پانی کی سطح۔ المُسْتَوَی العلمی: سائنٹیفک سطح۔ مُسْتَوَی الحیلة: معیار زندگی۔ فی مُسْتَوَی: سے یکساں سطح یا درجہ پر۔ السوید: سویڈن سویدی: سویڈن کا۔ السویس: نہر سویز (بندرگاہ) قناة (قنال) السویس: نہر سویز۔ سویسرا: سوئزرلینڈ۔ سویسری: سوئزرلینڈ کا۔

سِی: سید کا مخفف سیدی، جناب، مسٹر۔

سیام: سیام، تھائی لینڈ۔

سیا: سَیَّأَت الناقةُ: اونٹنی کا بغیر دوہنے کے دودھ بہانا۔ تَسَیَّأَتِ الناقة: اونٹنی کا بغیر دوہنے دودھ بہانا۔ کہتے ہیں۔ تَسَیَّأَت علیَّ الامورُ: معاملات نے اچانک مجھے آلیا اور میری سُنی گم کر دی۔ تَسَیَّأَ فلانٌ بحقی: فلاں نے انکار کے بعد میرے حقوق کا اقرار کر لیا۔ اِنْسَیَأَ اللبنُ: دودھ کا دوہنے کے بغیر بہنا۔ السَّیء والسِیءُ جمع سُیُوء: خود بخود نکلنے والا دودھ۔

ساب: ا۔ سَابَ ـِ سَیْبًا الماءُ: پانی کا ادھر ادھر بہنا۔ الرجلُ: تیز تیز چلنا۔ فی کلامه: بے سوچے بولتے چلے جانا۔ ت الدابةُ: جانور کا آزاد پھرنا۔ سَیَّبَهُ:

کو چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا۔ ــ العبدَ: غلام کو آزاد کرنا۔ انْسابَ انسیاباً: تیز تیز چلنا۔ ـتِ الحیّةُ: سانپ کا رینگنا۔ السَّیْبُ (مص) جمع سُیُوب: برتی بارش۔ بخشش، مال، زیادتی، زمین کے مدفون خزانے۔
السِّیب جمع سُیُوب: پانی بہنے کی جگہ، گزرگاہ۔
السائب: جس کی حفاظت نہ کی جائے۔ کہتے ہیں۔
المال السائب یعلّم الناس الحرام: بے حفاظت مال لوگوں کو حرام (یعنی چوری) سکھاتا ہے۔ السائبة جمع سُیَّب و سَوائِب: چھوڑی ہوئی، نظر انداز کی ہوئی، آزاد کردہ غلام، وہ اونٹنی جو ایام جاہلیت میں نذر کے لئے چھوڑی جاتی تھی یا دس بارہ بچے جننے کے بعد اس کو آزاد چھوڑا جاتا تھا۔ نہ اس پر سواری کرتے نہ اس کا دودھ دوہتے۔ اس کا دودھ اس کا بچہ پیتا یا مہمان کو دودھ پینے کا حق حاصل تھا۔ اسی طرح پینے اور چرنے میں اسے پوری آزادی ہوتی تھی، جہاں چاہتی چرتی اور جہاں سے چاہتی پانی پیتی۔ نیز وہ چیز یا مال جس کی حفاظت نہ کی جائے۔
۲۔ انسابَ فلانٌ نحونا: فلاں کا واپس آجانا۔
۳۔ السَّیْبُ جمع سُیُوب: گھوڑے کی دم کے بال۔
(ن) سیب (فارسی لفظ) السِّیاب و السَّیاب والسُّیّاب واحد سَیابة وسُیّابة (ن): کچی کھجور، گدر کھجور۔ السَّیابة: شراب۔ السِّیبان (ح): اصل میں السِّصِبان ہے۔ پسوؤں اور جوؤں کے انڈے۔
○ انسیابی و انسیابی الشکل: صاف، بے رکاوٹ۔ Stream lined
سائب: بیکس، تن تنہا، گم، بھٹکا ہوا، آزاد، ڈھیلا، ڈھیلا ڈھالا، جسے روکا نہ گیا ہو۔
سیبیریا: سائبیریا: Siberia (روس کا علاقہ)
سیج: سَیَّجَ الکرمَ: انگور کی بیل کے لئے باڑ لگانا۔
السِّیاج جمع سِیاجات و أسْوِجة و سُوج: دیوار، باڑ جو کسی چیز کے ارد گرد قائم کی جائے جیسے انگور کی بیلوں اور کھجور کے درختوں سے اور کر دلگائی جاتی ہے۔
السَّیْجان (ح): ایک قسم کی مچھلی۔
○ سَیَّج ہ: کے گرد باڑ لگانا، جنگلا لگانا۔
سیاج: باڑ، جنگلا، احاطہ، فصیل شہر پناہ، حمایتی جمع سیاجات وأسوجة و اسیاج ساج: ساگوان۔ سیجار: سگار۔ سیجارة جمع سیجارات و سَجائِر و سجایر: سگرٹ۔
ساح: ۱۔ ساح ـِ سَیْحاً و سَیَحاناً الماءُ: پانی کا سطح زمین پر بہنا۔ ماءٌ سائحٌ و سَیْحٌ: زمین کی سطح پر بہنے والا پانی۔ کہتے ہیں۔ ھذہ الارض تُسقی بالماء تسیحاً: یہ زمین بہتے ہوئے پانی سے سیراب کی جاتی ہے۔ سَیْحاً و سَیَحاناً و سِیاحةً و سُیُوحاً: عبادت کے لئے زمین میں پھرنا۔ سیر سپاٹے وغیرہ کے لئے ملک میں گھومنا، پھرنا۔ صفت سائح جمع سُیّاح و سائحون: عام لوگ سُوّاح کہتے ہیں۔ سَیَّحَ ہُ: کو بہانا۔ أساحَ ہُ: کو بہانا۔
السَّیْح (مص) جمع سُیُوح و أسیاح: بہنے والا پانی۔ السائح: مسجد میں رہنے والا روزہ دار۔
السَّیّاح: ملکوں میں بہت پھرنے والا۔ سیاح۔
السِّیاح جمع مسابیح: شرارت اور چغلی کو پھیلانے والا۔
۲۔ ساحَ ـِ سَیْحاً و سَیَحاناً الظلُّ: سایہ ڈھلنا۔
أساحَ الفرسُ بذنبه: گھوڑے کا دم کو ڈھیلا کرنا۔
انساح بطنُهُ: پیٹ کا بڑا ہونا اور لٹک جانا۔
۳۔ سَیَّحَ فلانٌ تسییحاً کثیراً: خوش بیانی سے بولنا۔
السَّیْحُ جمع سُیُوح و أسْیاح: دھاری دار کپڑا۔
المُسَیَّح من الثیاب: دھاری دار کپڑا۔
۴۔ انساحَ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ ـت الصخرةُ: چٹان کا پھٹنا۔ بالُهُ: کشادہ دل ہونا، فراخ دل ہونا۔
○ ساح ـِ سَیْحاً و سَیَحاناً: (برف، دھات کا) پگھلنا، حل ہو جانا، سیال بن جانا۔ سیحاً و سِیاحةً: سفر کرنا، گھومنا، پھرنا۔ سَیَّحَ ہ: (دریا وغیرہ) کو جاری کرنا، بہانا (دھات وغیرہ) پگھلانا، حل کرنا، پانی کر دینا، پگھلا کر صاف کرنا۔ ہ: (مکھن) پگھلانا۔
سِیاحة جمع سیاحات: سفر، سیاحت۔ سَیّاح جمع سَیّاحون: مسافر، سیاح۔ سائح جمع سائحون و سُیّاح و سُوّاح: مسافر، سیاح، درویش جو سفر کرتا رہتا ہے۔ مُسَیَّح: سیال، مائع۔ دھاری دار کپڑا۔
ساخ: ساخَ ـِ سَیْخاً و سَیَخاناً: مضبوط ہونا۔ ـت قدمُهُ فی الطین: کیچڑ میں پاؤں گڑ جانا۔ السِّیاخ جمع سُیُوخ: مٹی کی عمارت۔ السِّیخ: بڑی چھری (فارسی)
○ سِیخ جمع أسیاخ: سیخ کباب کی سیخ، کسی دھات کا ورق یا پترہ۔ بیچ کناری، لوہے کا کانٹا، پیچ، بولٹ۔
سار: ۱۔ سارَ ـِ سَیْراً و تَسْیاراً و مَسِیراً و مَسِیرةً و سَیْرُورةً: رات کو جانا۔ ــ ہُ و بہ: کو لے جانا۔ الدابةَ: جانور پر سوار ہونا۔ الکلامُ او المثلُ فی الناس: کلام یا مثل کا لوگوں میں مشہور ہونا۔ سَیَّرَ الرجلَ: کو چلانا۔ المثلَ: کو لوگوں میں مشہور کرنا۔ ـہ من بلدہ: کو شہر یا ملک سے نکال دینا۔ ملک بدر کرنا، شہر بدر کرنا۔ الجلَّ عن ظهر الدابةِ: جانور کی پیٹھ سے جھول اتارنا۔ سایَرَہُ: کے ساتھ چلنا۔ أسار الرجلَ: کو چلانا۔ تسایرَ عن وجهه الغضبُ: غصے کے آثار چہرے سے غائب ہونا۔ تسایَرا: باہم مل کر چلنا، ساتھ ساتھ چلنا۔ استار استیاراً: زاد راہ خریدنا۔ السَّیْر (مص) زمانہ حاضر کے عرب مؤلفین کہتے ہیں۔ لیس فی عصاہ سیرٌ: وہ جو چاہتا ہے کر نہیں سکتا۔ السِّیرة جمع سِیَر: سار کا اسم۔ المثل السائر: مشہور مثل۔ السَّیّار و السَّیِّرة و السَّیُور: بہت چلنے والا۔ السَّیّارة جمع سَیّارات: سیار کا مونث، قافلہ، موٹر کار، اسے آٹو موبیل بھی کہتے ہیں۔
السَّیّارات (فلک): سورج کے گرد چکر لگانے والے اجرام سماویہ جو سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، یہ سیارے حسب ذیل ہیں۔ عطارد، زُهرة، زمین، مریخ، مشتری، زحل اور انوس (جس کا انکشاف ہرزل نے 1871 میں کیا) نیپچون جس کا انکشاف لی فریہ نے ۱۸۴۶ء میں کیا) پلاٹون جس کا کھوج ۱۹۳۰ء میں لگایا گیا۔ اس کے مقابل میں اجرام سماویہ ثوابت کہلاتے ہیں۔ السیّارات العلیا (فلک): وہ سیارے ہیں جو سورج سے زمین کے مقابلہ میں زیادہ دور ہیں۔
السیّارتان السُّفلیان (فلک): عطارد و زهرہ جو زمین کے مقابلہ میں سورج سے قریب تر ہیں۔ التَّسْیار (مص) سیر کا اسم مبالغہ۔ طریقٌ مَسُورٌ (مفع): آمد و رفت کی سڑک، چلنے والا راستہ۔ المَسِیرة: مسافت۔ کہتے ہیں۔ بینهما مسیرةُ یوم: یعنی دونوں کے درمیان ایک دن (چلنے) کی مسافت ہے۔
۲۔ سار ـِ سَیْراً و تَسْیاراً و مَسِیراً و مَسِیرةً و سَیْرُورةً السُّنّةَ: سنت پر عمل کرنا جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ و اوّل راضی سُنّةٍ من یسیرها: سنت پر سب سے پہلا مطمئن وہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔ کہتے ہیں۔
سِر عَنْکَ: مت پروا کرو، بے خبر ہو۔ سَیَّرَ سِیرةً: اگلوں کی باتیں کرنا۔ استار استیاراً بسیرة فلانٍ: کسی کی سیرت و خصلت پر چلنا۔ سارُ الشیءِ: سب چیز۔ السِّیرة جمع سِیَر: ہیئت، طریقہ، عادت، طرز زندگی۔ سیرة الرجل: سوانح عمری لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی کیفیت (کہتے ہیں۔ هو حَسَنُ السیرة: وہ لوگوں میں اچھے سلوک والا ہے۔ اسی سے ہے۔ من طابَتْ سریرتُهُ حُمِدتْ سیرتُهُ: پاک باطن خوش عادت ہوتا ہے)۔ قصہ، کہانی چنانچہ۔ سیرة [illegible]

مصنفین کی مثلوں میں سے المُسَیَّرُ ہے وہ کہتے
ہیں۔ الانسان مُسَیَّرٌ لا مُخَیَّر : یعنی انسان اس
دنیا میں اس طرح چلتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اسے
چلائے نہ کہ اس طرح جس طرح وہ خود چاہے۔
۳۔ سَیَّرَ الثوبَ اَوِ السهمَ : کپڑے کو دھاریدار بنانا۔
تَسَیَّرَ الجلدُ : کھال کا چھل جانا۔ تَسَیَّرَ الجلدُ :
کھال کا چھل جانا۔ السَّیْرُ ج سُیُور و سُیُورَۃ
واَسْیَار : تسمہ۔ السِّیَرَاء : دھاریدار یا ریشم ملی چادر
دیں۔ المُسَیَّرُ من الثیاب : دھاریدار کپڑا۔
۴۔ سارُ الشَیء : باقی ماندہ چیز۔ سائِرُ الشَیء : باقی ماندہ
چیز۔ السیراء : خالص سونا۔ گٹھلی سے چمٹا ہوا چھلکا،
دل کا پردہ، کھجور کی ٹہنی۔
۵۔ السِیْرَج : تل کا تیل۔ شِیْرَج بھی کہتے ہیں
(فارسی)
○ سار بہ : کی راہنمائی کرنا، کو لے جانا۔ سار وراءہ :
کے پیچھے چلنا، کا تعاقب کرنا۔ سار جِیئَۃً و ذھابًا :
ٹہلنا۔ سار فی سبیل التحسن : روبہ صحت ہونا۔
الخِطّۃ التی سار فیھا : وہ راستہ جس پر وہ چلا۔
سار سِیرَۃً حَسَنَۃً : اس نے اچھا رویہ اختیار کیا، وہ
اچھی طرح پیش آیا۔ سار علی قدمیہ : مردہ اور
فراموش کردہ نہ ہونا، ابھی کافی زندہ ہونا، ایک محسوس
حقیقت ہونا۔ حُسن السِّیَر والسلوك : بے داغ
زندگی۔ فی السیر وراء غَرَضِہ : اپنے مقاصد کے
حصول کی جدوجہد میں۔ سَیر جمع سِیور : تسمہ، پٹی،
کمر بند، تنگ، گھیرا۔ سَیْرٌ متحرك : ترسیل پٹی
(Assembly line)۔ سِیرہ جمع سِیَر : طرز عمل،
طور طریقہ، چال چلن، سلوک، برتاؤ، رکھ رکھاؤ، وضع،
ڈھنگ، رویہ، طرز زندگی، ردعمل (واحد وجمع) سوانح
حیات، سیرت، تذکرہ، تاریخ (جمع) مھمین۔
السیرۃ : نبی کریم کی سوانح حیات۔ سَیّار : اکثر سفر
کرنے والا، ہمیشہ متحرک، مسلسل حرکت میں مسافر،
سیاح، ادھر ادھر پھرنے والا، مٹر گشت کرنے والا۔
سَیّارہ : سورج کے گرد گھومنے والے اجرام سماویہ میں
سے ایک۔ صُحُفٌ سَیّارۃ یا جرائد سَیّارۃ : روز
نامے۔ سَیّارۃ الاجرۃ : ٹیکسی کیب۔ سَیّارۃ مُدَرَّعَۃ :
آرمرڈ کار۔ سَیّارۃ دَوْرِیَّۃ : پٹرول کار، گشتی کار
(patrol car)۔ سیارۃ الاسعاف : ایمبولینس۔
سَیّارۃ النقل : ٹرک، لاری۔ سائق السیارۃ :
ڈرائیور، شوفر۔ مَسَار جمع مَسَارات : (کرنوں یا
شعاعوں وغیرہ کا) راستہ۔ مَسِیر : سفر، ٹور، مارچ
(عسکری)، روانگی، فاصلہ۔ مَسِیرہ : سفر، ٹور،
روانگی، فاصلہ، دوری۔ تسییر : بھیجنا، روانہ کرنا،
ریلنے والی توانائی، قوت سائقہ۔ چلانا، ڈرائیو کرنا۔
التسییر النفاثی : جیٹ پروپلشن۔ مُسایَرۃ : تصرف،
مطابقت۔ سائر : رواں دواں چلتا ہوا، چلنے والا،
پیادہ رو، راہ گیر، راہی، سیلانی، عموماً معروف، مروج،
چالو۔ خدمۃ سایرۃ : موٹی مزدور۔ مُسَیَّر (ب) :
سے ڈائرکٹ یا کنٹرول کیا جانے والا۔ بے تار جیسے
guided missile (بے تار بم) ریموٹ کنٹرولڈ
Remote controlled (فلسفہ) جسے حریت
ارادہ ودیعت نہ کیا گیا ہو۔
سیس : سَیِسَ یَسْیَسُ سَیَسًا الطعامُ : کھانے کو گھن
لگنا۔ ساسَى ہُ : کو شرم دلانا، عار دلانا۔ السِّیساء :
ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ کا مقام۔ سیساء الظهر
من الدواب : جانوروں کی پیٹھ کا وہ مقام جہاں سوار
ہوتے ہیں۔
سیط : سَیْطَرَ سَیْطَرَۃً و تَسَیْطَرَ علیھم : کا نگہبان
ہونا، پر مسلط ہونا۔
○ سَیْطَر علی : پر حاکم ہونا، پر دسترس رکھنا، پر اختیار
رکھنا، تسلط ہونا، کو قابو میں رکھنا، پر حکومت کرنا، تسلط قائم
رکھنا، پر غلبہ رکھنا، پر غلبہ پانا، کا ماہر ہونا، کا فرماں روا یا
حاکم اعلیٰ ہونا، پر اقتدار حاصل کرنا، پر قبضہ کرنا، کو قبضہ
میں لینا۔ سَیْطَرۃ : حکومت، تسلط، اقتدار، برتری، کنٹرول،
قابو، فیصلہ کن اثر۔ تحت سَیْطَرۃ : کے زیر کنٹرول۔
مُسَیْطِر : حاکم، فرمانروا، مطلق العنان حاکمیت یا اقتدار
اعلیٰ کا حامل۔
ساع : ا۔ ساعَ ـِ سَیعًا و سُیُوعًا الشیءُ : ضائع ہونا۔
اَساعَ الشیءَ : کو ضائع کرنا۔
۲۔ ساعَ ـِ سَیعًا و سُیُوعًا و تَسَیَّعَ الماءُ : پانی کا سطح
زمین پر ادھر ادھر بہنا۔ انْسَاعَ الماءُ : پانی کا زمین
کی سطح پر ادھر ادھر بہنا۔ الجامدُ : جمی ہوئی چیز کا
پگھلنا۔ السَّیع (مص) سطح زمین پر بہتا ہوا پانی۔
ناقۃٌ مِسْیاعٌ : بچے کو چھوڑ کر چراگاہ میں جانے والی اونٹنی۔
۳۔ سَیَّعَ الحائطَ بالطین : دیوار کو مٹی سے لیپنا۔ الشی
ءَ : کسی چیز پر پتلا پتلا تیل وغیرہ ملنا۔ السِّیاع : گارا جو
لپائی کے لئے بھوسہ ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔
المِسْیَعَۃ : لپائی کرنے کی کرنی۔
۴۔ السِّیعاء و السَّیعاء : رات کا ایک پہر کہتے ہیں۔
خرجت بعد سیعاء من اللیل : میں رات کا ایک پہر
گزرنے کے بعد نکلا۔
ساغ : اساغَ ـِ سَیغًا الشرابَ : مشروب کو خوشگوار
بنانا۔ السَّیِّغ من الشراب : خوشگوار مشروب۔
ساف : ا۔ سافَ ـِ سَیفًا ہُ : کو تلوار سے مارنا، کو تلوار مارنا۔
تَسَیَّفَ ہُ : کو تلوار مارنا۔ سایَفُوا و تَسَایَفُوا : ا
آپس میں تلوار سے لڑنا۔ اِستافوا اِستِیافًا اُستیفَ
القومُ : لڑنا، آپس میں تلوار سے تلوار سے مارے جانا۔
(لوگوں کا) السَّیف جمع اَسْیاف و سُیُوف
واَسْیُف و مَسْیَفَۃ : تلوار، ایک قسم کی سمندری مچھلی
جس کی تلوار نما چونچ ہوتی ہے۔ السِّیف : تلوار نما
چونچ والی مچھلی ایضاً سیف الغُراب : دیکھو۔ دلبوث
السائف : تلوار والا یا اس سے مارنے والا۔ السَّیْفان
م سَیْفانَۃ من الرجال : لمبا اور پتلا آدمی، بعض کے
نزدیک صرف عورتوں کے لئے یہ وصف مخصوص ہے۔
السَّیّاف جمع سَیّافۃ : شمشیرزن۔ رجلٌ سَیّافٌ :
خون بہانے والا آدمی۔ سَیّاف الامیر : جلاد۔
المُسَیِّف : تلوار باندھنے والا۔ تلوار سے مسلح، بہادر۔
المُسَیَّف من البُرُود : وہ چادریں جن پر تلوار کا نقش
یا تلوار کی طرح چوڑی دھاریاں ہوں۔
۲۔ سافَ ـِ سَیفًا ت الیدُ : ناخنوں کے ارد گرد ہاتھ کا
پھٹنا۔
۳۔ السِّیف جمع اَسْیاف : ساحل سمندر، یا ہر ساحل، کھجور
کی شاخ کی جڑوں سے چمٹی ہوئی چھال۔ سیفُ
الجبّار (فلک) : تین ستارے۔ الاَسْیاف :
(احزاب) آدمیوں کے مسلح گروہ۔ المَسایف :
خشک سال، قحط کہتے ہیں۔ اَصابتھم المسایف : وہ
قحط میں مبتلا ہو گئے۔ المَسِیف : فقیر غریب۔ المُسَیَّف
من الدراھم : وہ درہم جس کے کناروں پر نقش نہ ہو۔
○ سیف الاسلام : یمن کے شاہی خاندان کے شہزادوں
کا لقب۔ مُسَایَفۃ : تیغ زنی، شمشیرزنی، پٹے بازی۔
سیك : ا۔ السِّیكاس (ن) : ایک پودا۔
۲۔ السیكاہ : موسیقی کی ایک دھن (فارسی)۔
سال : ـِ سال ـِ سَیْلاً و سَیَلاناً و مَسِیلاً و مَسالاً
الماءُ : پانی کا بہنا۔ سَیَّل تَسْییلاً الماءَ : پانی
بہانا۔ سالَ اَسالَۃَ الماءَ : پانی بہانا۔ الجامدَ :
جمی ہوئی چیز کو پگھلانا۔ تَسایَلَ القومُ : لوگوں کا ہر
طرف سے آنا۔ السَّیل (مص) جمع سُیُول
بہنے والا۔ کہتے ہیں۔ ماءٌ سَیلٌ : بہنے والا پانی۔ السیل
سیلاب۔ السَّیلۃ : پانی بہنے کی جگہ۔ سال کا اسم مرۃ۔
السَّیلَۃ : پانی کا بہاؤ۔ السَّیال واحد سَیالۃ (ن)
ایک سفید لمبے کانٹوں والا پودا، اکھاڑنے پر دودھ جیسی
چیز نکلتی ہے۔ السَّیّال م سَیّالۃ : زور سے بہنے والا۔
مَسِیل الماء جمع مَسایل و مُسُل و اَمْسِلۃ و مُسْلان :
پانی بہنے کی جگہ۔ السوائل من المعادن و غیرھا :

بہنے والی دھاتیں جیسے پارہ۔

۲۔ سَالَ ـِ سَیلاً و سَیَلاناً و مَسِیلاً و مَسَالاًت غُرَّةُ الـفرس : گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کا لمبا چوڑا ہونا۔ أَسَالَ غِرارَ النصل :تلوار نیزہ وغیرہ کے پھل کی دھار لمبی کرنا۔ السَائِلة من غُرَرِ الخیل جمع سوائل :گھوڑے کی ناک تک اسکی پیشانی کی سفیدی۔ السِیُلانُ جمع سَیَالِین :میان میں رہنے والا، تلوار کا حصہ۔ المسال من الوجه :داڑھی کا پہلو، جو دو ہوتے ہیں یعنی مُسَالان۔

۳۔ السِیلان جمع سَیَالِین :ایک قیمتی پتھر۔

○ سیکارة جمع سَکَائِر :سگریٹ۔ سِیْکُورْتَاه : انشورنس، بیمہ۔ سیکورتاه الحریق :آگ کا بیمہ۔ سیکورتاه الحیاة :زندگی کا بیمہ۔ سَیکُولُوَجی: سائیکولوجک / سائیکولوجیکل

○ سَالَ لُعابُه علی :پر اسکی رال ٹپکنے لگی۔ سَیل عرام: بڑی تعداد سیلاب، ندی، نالہ۔ بَلَغَ السیلُ الزُبیٰ : مسئلہ اپنی انتہا کو جا پہنچا۔ فیصلہ کن مرحلہ پر پہنچا۔ مَسِیلَة: دریا، ندی، نالہ۔ علم السوائل :پانی کی طاقت سے چلنے والی قوتوں کا علم۔

سِیلان : سیلون (ملک کا نام)

سیم: السِیمَانیة :علم اشارات، جس کے ذریعے مخاطب کے ذہن میں مفہوم بٹھانا ہوتا ہے۔ السِیمُونِیَّة : سیمون نامی جادوگر کی طرف منسوب، مال کے ذریعے روحانی درجوں جیسے اُسقف: کے درجہ تک پہنچنے کی کوشش۔ روحانی یا مقدس اشیاء کی وقتی قیمت پر خرید و فروخت۔

○ سِیمَی (سِیمَا) سِیمَاء و سِیمَة جمع سِیَم : علامت، نشانی، خصوصیت، وضع قطع، چال ڈھال، اظہار۔ سِیمِیَا و سِیمِیَاء: قدرتی جادو۔

سین: السِینما توغراف :متحرک تصویریں دکھانے کا آلہ، فلم نما (آج کا) پروجیکٹر۔ السِینراما :پردہ سیمین پر نظر آنے والی تصاویر کو اپنی طبعی شکل میں دکھانے کا آلہ۔ سینما گھر۔

○ سین : لفظ (س) الاشعة السینیة :ایکس ریز۔

سِینا و سیناء: سینائی (sinai)

سینما: سینما، متحرک تصاویر دکھانے کا تھیٹر، سینما گھر۔ دُوْرُ السینما : سینما گھر (جمع) مووی (جمع) سینما صامت (صامته) : خاموش فلم۔ سینما ناطق : (ناطقہ) یا سینما صائت (صائتة) : ساؤنڈ فلم، ٹاکی Talkie روایة سینمائیة :فلم، مووی، متحرک فلم۔

سینما سکوب :سینما سکوپ

سینودس :کلیسائی مجلس (Synod)

سِي: سِیَةُ القوس جمع سِیات :کمان کا سرا۔

السِیّ و سِیّما : دیکھو (سوی)

ش

ش: تلفظ شین۔ حروف تہجی کا تیرہواں حرف ہے۔ حروف ابجد میں شین ۳۰۰ کے برابر ہے۔

شاب: الشُؤبُوب جمع شآبیب: بارش کی بوچھاڑ۔ دھوپ کی تیزی وشدت۔ ہر چیز کی حد، ہر چیز کی تندی و تیزی کی شدت، حسن کے نمودار ہونے کا آغاز۔ کہتے ہیں: هو حَسَنُ شآبیب الوجه: وہ اس کے چہرے کے حسن کا پہلا ظہور ہے۔

شأز: ۱۔ شَئِزَ - شَأَزًا و شَأْزَةً و شُؤَازًا المكانُ: جگہ کا دشوار اونچا اور ناہموار ہونا۔ صفت: شَأْز و شَئِز۔ أَشْأَز الرجُلُ عن كذا: سے بلند ہونا۔ خيلٌ شَأَزَةٌ: فربہ گھوڑے۔

۲۔ شَئِزَ - شَأَزًا و شُؤْزَةً و شُؤَازًا و شَئِزَ: بے آرام ہونا، ڈرنا۔ أَشْأَزَهُ: کو بے آرام کرنا، ڈرانا۔ إِشْتَأَزَ: بدکنا، ڈر کر بھاگنا۔ الشَأْزَة: اسم مرہ۔ المَشْؤُز و المَشْئُوز: بیقرار، خوف زدہ۔

ⓒ ش شارع بمعنی گلی کا مخفف ہے۔

ⓒ شاء: اسم جنس واحد شاة جمع شِوَا۔ و شِیاه: بھیڑ۔ شُؤبُوب جمع شآبیب: موسلادھار بارش، بوچھاڑ۔ شادِر: خیمہ، گودام، ذخیرہ، بڑی دوکان، مخزن، اسلحہ خانہ۔

شئس: شَئِسَ - شَأَسًا الشيءُ: سخت ہونا۔ — الرجُلُ: غم یا بیماری سے بے کل ہونا۔ — المكانُ: جگہ کا سخت و پتھریلی ہونا۔ مكانٌ شَئِسٌ و شَأْسٌ ج شَئِیس و شُؤُس: سخت اور ناہموار جگہ۔

شأشأ: شَأْشَأَ شَأْشَأَةً و شَأْشَاءً الراعي الغنمَ او الحمير و بها: چرواہے کا بکریوں یا گدھوں کو شا شا یا شؤ شؤ کہہ کر ہانکنا۔ — ت النخلةُ: کھجور کے درخت کا بارآور نہ ہونا، اس میں گابھا نہ لگنا۔ — القومُ: لوگوں کا متفرق ہو جانا۔ — امرُهم: معاملہ واضح ہونا۔ الشَأْشَاء (مص): بڑی قسم کی کھجور، کھجور کے لمبے درخت۔

شئف: ۱۔ شَئِفَ - شَأَفًا ت اصابعُهُ: ناخنوں کے اردگرد انگلیوں کا پھٹ جانا۔

۲۔ شَئِفَ - شَأَفًا ت الرِجلُ: پاؤں میں آبلہ پڑنا صفت: مَشْؤُوفة۔ شُئِفَتِ الرجل: پاؤں میں آبلہ پڑنا۔ إِسْتَشْأَفَ تِ القرحةُ: ناسور کا خراب ہو کر جڑ پکڑنا۔ شَأْفُ الجرحِ: زخم کا بگاڑ۔ الشَأْفَة: جڑ بکوے کا زخم، کہتے ہیں: استأصل شأفتهُ: اس نے اسے جڑ سے اکھیڑ دیا۔ یہ بھی کہتے ہیں: بينهم شأفةٌ: یعنی ان کے درمیان دشمنی ہے۔ استأصل اللّٰهُ شأفتَهُم: اللہ تعالیٰ ان کی عداوت اور اذیت کو جڑ سے مٹا ڈالے۔ شافةُ الرجل: آدمی کے اہل و عیال اور مال۔ رجلٌ شَأْفَةٌ: طاقت ور اور ناقابل تسخیر مرد۔

۳۔ شَئِفَ - شَأْفًا شَآفَةً فلانًا و لفلانٍ: سے بغض رکھنا، نفرت کرنا۔

۴۔ شُئِفَ: خوف زدہ ہونا، ڈرایا جانا صفت: مَشْؤُوف۔

ⓒ شاكُوش و شَكُوش جمع شَوَاكِیس: ہتھوڑا۔ ابو شاکوش: شارک (مچھلی)۔ شال جمع شِیلان: شال۔ شَالِیه جمع شَالِیات: مچان، ساحلی جھونپڑا، ساحلی کٹیا، سمندری جھونپڑا۔

شأم: ۱۔ شَأَمَ - شَأْمًا القومَ و عليهم: لوگوں پر نحوست ڈالنا صفت: شَائِم۔ شُؤُمَ - شَآمَةً و شُئِمَ عليهم: کیلئے نامبارک و منحوس ہونا۔ تَشَاءَمَ و اسْتَشْأَمَ به: سے بدشگونی لینا۔ (تَیَمَّنَ وتفاءل کی ضد) الشُؤْم: بدشگونی، بدفال نحوست، سیاہ اونٹ۔ الشَائِم (فا): نحوست لانے والا۔ الأَشْأَم م شُؤْمَى: اسم تفضیل (اس سے ہے: أَشْأَم كلِّ امرِیءٍ بين لَحيیه: یعنی زبان سب سے زیادہ بدشگون ہے)۔ بدبختی لانے والا۔ المَشْأَمَة: نحوست، بے برکتی۔ المَشْؤُم و المَشْؤُوم جمع مَشَائِیم: نامبارک نحوست والا۔ عوام میشوم کہتے ہیں۔

۲۔ شَاءَمَ مُشَاءَمَةً به: کو بائیں طرف لینا۔ تَشَاءَمَ و تَشَأَّمَ: بائیں طرف ہونا۔ الشَأْمَة: بے برکتی، نحوست۔ الشُؤْمَى: بایاں جانب بایاں ہاتھ۔ الأَشَائِم: أَشْأَم کی جمع وہ ضرب الامثال جو لفظ اشأم سے شروع ہوتی ہیں۔ المَشْأَمَة: بایاں پہلو۔

۳۔ شَأَّمَهُم: کو ملک شام کی طرف روانہ کرنا۔ شَاءَمَ مُشَاءَمَةً الرجُلُ: ملک شام میں آنا۔ أَشْأَمَ: ملک شام کا قصد کرنا یا اس میں آنا۔ تَشَاءَمَ و تَشَأَّمَ: شام کی طرف منسوب ہونا، بائیں طرف ہونا۔ الشام و الشأم: ملک شام آج کل اسے سوریا کہتے ہیں۔ الشَامِیّ والشآمي و الشآمیّ: ملک شام کی طرف منسوب۔

۴۔ شَأَّمَهُ (فی اصطلاح العامة): اپنے نقطہ نگاہ کی وکالت کرنا۔ أَشْأَمَ: اکڑ کر چلنا، سر اٹھا کر چلنا۔ الشِیمة و الشِنمة ج شِیَم: خُلق، فطرت، عادت۔ الشِنُمَة عند العامة: بہادری اور خودداری۔ چنانچہ وہ مثلاً کہتے ہیں: فلانٌ صاحب شِنمَةٍ او بلا شِنمة: فلاں بہادر اور خوددار یا شجاعت اور خودداری سے عاری ہے۔

ⓒ شامًا و یمنًا: شمالاً جنوباً۔ شامی جمع شامیون و شُوام: شامی، ملک شام کا۔ شآمي: شامی (صفت واسم) شُؤْم: مصیبت، آفت، بدبختی، بدقسمتی، بدنصیبی، بدشگونی، شگون۔ لاتَمْلَأْ الدنیا شُؤْمًا: دنیا کو

بدشگونی سے نہ بھروا س کا کچھ یہ بھی مفہوم لیا جاتا ہے کہ شیطان کا نام لوتو وہ آجاتا ہے۔ اَشْأَم م شُؤْمَی: نامبارک، بدشگونی والا، غیر معمولی، منحوس، شرانگیز، آفت رساں، مصیبت بھرا، مصیبت انگیز، بدنصیب، بدقسمت، بہت نقصان دہ، سخت مضر، ملعون، لعین، لعنتی، مردود۔ تَشَاءُم: یاس، قنوطیت۔ مُتَشَائِم: قنوطی۔ مَشْؤُوم و مَشُوم جمع مَشَائِیم (دیکھو اَشْأَم) عدد مشؤوم: منحوس نمبر۔

شان. شَأَنَ – شَأْنًا: قدر ومنزلت والا ہونا۔ کہتے ہیں: شَأَن شَأْنَك: اس نے تمہارے قصد جیسا قصد کیا۔ ماشَأَنَ شَأْنَك: اس نے تمہارے معاملہ کی کچھ پروا نہیں کی۔ کہتے ہیں: اشْأَن شَأْنَك: اپنی حالت پر رہو۔ اشْتَان شَأْنَك: کی کے ارادہ کی طرح ارادہ کرنا۔ الشَّأن جمع شُؤُون و شِنَان و شِنِین: بڑے بڑے امور، احوال، معاملہ، حالت۔ کہتے ہیں: مَاشَأْنُكَ: تمہارا کیا حال ہے یا تمہارا کیا کام ہے۔ مِن شَأنِه كذا او ان يفعل كذا: ایسا یا ایسا کرنا اس کی فطرت وطبیعت ہے۔ — ج شُؤُون و شُؤُن (ع ا): کھوپڑی کا جوڑ یا درز۔ (کہتے ہیں: بلغت الرائحةُ إلى شُؤُون رأسه: بو اس کی کھوپڑی میں پہنچی)، پہاڑ کی مٹی جس میں کھجور کے درخت اگیں۔ آنسوؤں کی رگ۔ کہتے ہیں: فاضت شُؤُونه: اس کے آنسوؤں کی رگیں بہہ پڑیں۔ الشُّؤُون: ضروریات۔ کہتے ہیں: كَلِّفْنِي شُؤُونَكَ: اپنے ضروریات میرے سپرد کرو۔ شُؤُونُ الخمر: شراب کا رگوں میں اثر۔

شَأْن جمع شُؤُون: معاملہ، تعلق واسطہ، پریشانی، تشویش، کاروبار، حالات، معاملات کی حالت، حالت، طبیعت، فطرت، امتیازی خصوصیت، خوبی، قسم صورت حال، حالت، معنی، مطلب مفہوم، اہمیت، نتیجہ، انجام، حیثیت، مسلمہ حیثیت، وقار، رتبہ۔ جمع شؤون: آنسو۔ شأنَ: جیسے، کی طرح۔ بشأن: کے بارے میں، کے متعلق۔ جلّ شأنه: باری تعالیٰ کا جلال بے پایاں ہے۔ وزارة الشؤون الاجتماعيه: امور سماجی کی وزارت۔ الشؤون الخارجية: امور خارجہ۔ ذُو الشَّأن م ذات الشأن: ذمہ دار، نگران، معاملہ سے براہ راست متعلق شخص۔ اولو الشأن و ذوو الشأن: بااثر لوگ، اہل، لائق، قابل، مجاز لوگ۔ وہ لوگ جن کا معاملہ سے تعلق ہو۔ شُؤُونُ الحياة: دنیاوی معاملات۔ خطير الشأن: نہایت اہم۔ ذوشأنٍ: اہم معنی خیز۔ رفيع الشأن: بلند مرتبہ (والا)، "بے" خاندان کے ارکان کا لقب۔ صاحب الشأن: متعلقہ شخص۔ أصحابُ الشأن: متعلقہ اشخاص، اہم اور بااثر لوگ۔ مُكَلَّف بالشؤون: مدار المہام، ناظم الامور charged affaires۔ شأنه في ذلك شأن ال: اس معاملہ میں اس کا حال وہی ہے جو...... کا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ اسی صورت حال میں ہے جس میں وہ ہے۔ رجل هذا شأنه: ایک شخص جس کا حال ہے، ایک شخص جسے ...... کہا جا سکتا ہے۔ ایک شخص اس صورت حال میں شأنك يا أنتَ و شأنَكَ: جو چاہو کرو۔ شأنك و ما تريد: جو دل چاہے کرو۔ دَعْنِي و شأني: مجھے تنہا چھوڑ دو۔ تَرَكَهُ و شأنَه: اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اسے جانے دیا، کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ هو في شأن: وہ ایک معاملہ میں مصروف ہے۔ هذا شأنُه: یہ اس کا معاملہ ہے۔ ماشأنُكَ: تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ ماشأنُك و هذا: تمہارا اس سے کیا واسطہ، تمہارا اس میں کیا کام۔ ماشأنه و الامرُ: اس کا اس معاملہ سے کیا تعلق ہے؟ ماشأني في ذلك؟: بھلا میرا اس سے کیا واسطہ، اس میں میرا کیا کام أيَّ شأن لك في هذا: اس میں تمہارا کیا کام ہے، اس کا تمہارے سے کیا تعلق ہے۔ له شأن في ذلك: اس کا اس بارے میں کچھ نہ کچھ تعلق ہے، اس کا اس میں ہاتھ ہے۔ لاشأن له في ذلك: اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ ليس لي شأن في ذلك: یہ میرا کام نہیں That is none of my business۔ میں اس میں دخل نہیں دوں گا۔ لاشأن لي به: میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ میرا کام نہیں It is none of my business۔ لي معه شأنٌ آخر: مجھے اب بھی اس سے شکایت ہے۔ ذهب لبعض شأنه: اس نے اپنے ایک کام پر توجہ دی۔ وہ کچھ کرنے کے لئے گیا۔ إنصرف إلى شأنه: وہ اپنا کام بجالانے کے لئے چلا گیا۔ أَصْلَحَت من شأنِها: اس نے بناؤ سنگھار کیا۔ أهمل شأنَه: اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ذلك شأنُه: یہ تو اس کی عادت ہے۔ هذا شأنه دائمًا: وہ ہمیشہ ہی کرتا ہے۔ شأنُه في: جیسا کہ وہ اس بارے میں کرنے کا عادی تھا۔ شأنه مع من: جیسا کہ وہ ایسے لوگوں سے نمٹنے کا عادی تھا۔ كان من شأنه: اس کی عادت تھی کہ۔ مِن شأنه أن: اس کی فطرت ہے کہ اس کا طبعی میلان ہے کہ ...... یہ اس کا کام ہے کہ ...... ليس من شأنه أن: یہ اس کا معاملہ یا کام نہیں کہ ...... اس کے لئے یہ ...... غیر موزوں ہے، یہ اس طرف مائل نہیں کہ ...... یہ ...... کا باعث نہیں ہوگا۔ اِنَّ لهذا الرجلِ شأنًا: وہاں اس پر نظر رکھنے والا ایک آدمی ہے، یہ اہم آدمی ہے۔ اس شخص کے متعلق کچھ بات ہے۔ لله في خلقه شؤون: اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی چیزیں پیدا فرمائیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں عجیب وغریب چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔

شانتاج: بلیک میل blackmail۔ (فرانسیسی لفظ)

شأی: شَأَى يَشْؤُو شَأْوًا القومَ: لوگوں سے آگے بڑھنا۔ شَاءَى مشاءاة القومَ: لوگوں سے آگے بڑھنا، سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ تَشَاءَى تَشَائِيًا القومُ: ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، متفرق ہونا۔ — ما بينهما: ایک دوسرے سے فاصلہ پر ہونا۔ إشْتَأَى إشْتِيَاءً القومَ: لوگوں سے آگے بڑھنا۔ الشَّأْو (مص): مدت، غایت۔ (کہتے ہیں: عدا شأوًا: وہ ایک دوڑ دوڑا۔ فلانٌ بعيدُ الشأو: فلاں بلند ہمت ہے۔) اونٹنی کی مہار۔ ۲۔ شَأَى يَشْؤُو شَأْوًا التراب من البئر: کنویں سے مٹی نکالنا۔ اشْتَأَى إشْتِنَاءً التراب من البئر: کنویں سے مٹی نکالنا۔ الشأو: کنویں سے نکلی ہوئی مٹی، اونٹنی کی مینگنیاں، گوبر کھاد۔ المِشْآة جمع المَشَائي: کنویں سے نکلی ہوئی مٹی، گوبر، کھاد۔

شَا – شَأْوًا ہ: کو دوڑ میں جا لینا، سے دوڑ میں آگے نکل جانا۔ شَأْو: بلند ترین جگہ، چوٹی، منزل مقصود، گول، مقصد، مدعا۔ بعيد الشأو: دور کی تمنا رکھنے والا، دور کی سوچنے والا، بہت اولوالعزم۔ بلغ شأوه في: کسی معاملہ میں دوسرے جتنا دور چلا جانا، سے خوب میل کھانا، ملتا جلتا ہونا۔ بلغ شأوا بعيدا في الرُّقِي: زبردست ترقی کرنا۔ بلغ الشأو البعيد: مقابلہ میں انعام جیتنا، مرکز ہدف پر ضرب لگانا۔

شب: ا۔ شَبَّ – شَبَابًا و شَبِيبَةً الغلامُ: لڑکے کا جوان ہونا۔ کہتے ہیں: مِن شَبَّ إلى دَبَّ: جوانی سے لے کر بڑھاپے تک۔ شُبَّ: آپ کہتے ہیں: فعلت ذلك من شُبَّ إلى دُبَّ: میں نے یہ جوانی سے بڑھاپے تک کیا۔ ان دونوں فعلوں میں نائب فاعل مصدر کی ضمیر ہے۔ شَبَّبَ: جوانی اور کھیل کود کے دنوں کا ذکر کرنا۔ أَشَبَّ الغلامُ: لڑکے سے نوجوان ہو جانا۔ الرجُلُ: کی اولاد کا جوان ہو جانا۔ — الثورُ: بیل کا بوڑھا ہونا صفت: مِشِب، مُشِب، شَبَب و مِشَب۔ — اللّٰهُ الغلامَ: اللہ کا لڑکے کو جوان کرنا۔ کہتے ہیں: — اللّٰهُ قرنَهُ: اللہ اس کی عمر دراز کرے۔

لاأشَبَّ اللّٰهُ قرنه: اللہ تعالیٰ اسے جوانی دے نہ عمر میں اضافہ کرے۔ تَشَبَّبَ: جوانی کھیل کود وغیرہ کے دنوں کا ذکر کرنا۔ الشَّبّ ج شَباب و شُبّان و شَبَبَة م شَبَّة جمع شَبّات و شَوابّ و شَبائِب: جوان۔ شَبُّ الليل (ن): ایک پھولدار پودا۔ الشاب جمع شَباب و شُبّان و شَبَبَة م شابَّة جمع شابات و شَوَاب و شَبَائِب: جوان۔ الشَّباب (مص) و الشبيبة (مص) جمع شَبيبَة شَبائِب: جوانی سن بلوغ سے تقریباً تیس سال کی عمر تک کا زمانہ، چیز کا اول جیسے شبابُ النهار: دن کا ابتدائی حصہ۔

۲۔ شَبَّ ـ شَبيبًا و شِبابًا و شُبُوبًا الفرسُ: گھوڑے کا اڑ جانا یا نشاط میں ہونا، اگلی ٹانگوں کو اٹھانا۔ أَشَبَّ الفرسَ: گھوڑے کو اُکسانا۔ الشَّبُوب: گھوڑا جس کی پچھلی ٹانگیں، اگلی ٹانگوں سے آگے ہو جائیں۔

۳۔ شَبَّ ـ شَبًّا و شُبُوبًا النارَ: آگ روشن کرنا۔ ـــ ت النارُ: آگ کا روشن ہونا۔ ـــ الشيءُ: کسی چیز کا بلند ہونا اور بڑھنا۔ کہتے ہیں: الجوهرُ يشبُّ بعضُه بعضًا: جوہر کا بعض دوسرے بعض کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ اشیاء اپنی اضداد سے ظاہر ہوتی ہیں۔ شُبَّتِ النارُ: آگ روشن ہونا۔ شبّ الشيءُ: کسی چیز کا زیادہ ہونا اور اونچا ہونا۔ شَبَّبَ قصيدتَه و ب: عورتوں کے ذکر سے قصیدہ کو مزین و آراستہ کرنا۔ مدحیہ قصائد کے شروع میں تشبیب کا رواج تھا مگر پھر ہر چیز کی ابتداء کو تشبیب کہنے لگے۔ ـــ الشاعرُ بالفتاةِ: محبوبہ کے بارے میں سرور آفریں نظم کہنا اور اپنا اس سے تعلق و رشتہ کا ذکر کرنا اور اس کی تعریف کرنا۔ تَشَبَّبَتِ النارُ: آگ روشن ہونا۔ تَشَبَّبَ الشاعرُ بالفتاة: بمعنى شَبَّبَ الشاعر بالفتاة۔ الشَّباب بمعنی تشبیب: کہتے ہیں قصيدة حسنة الشباب: خوبصورت تشبیب والا قصیدہ۔ الشَّبُوب: خوبصورت بنانے والا۔ کہتے ہیں: هذا شَبُوبٌ لكذا: یہ اس کی قوت اور حسن کو بڑھاتا ہے۔ الخمارُ شَبُوبٌ لوجهها: نقاب اس عورت کے چہرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا ہے۔ ـــ و الشِّباب: وہ چیز جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ ایندھن۔ المَشبُوبُ من الرجال: تیز خاطر شخص۔ نارٌ مَشبُوبة: روشن اور بھڑکتی ہوئی آگ۔

۴۔ شُبَّ لهُ الشيءُ: کیلئے کسی چیز کا اللہ کی طرف سے مقدر کیا جانا۔ أُشِبَّ لهُ كذا: کیلئے مقدر کیا جانا۔

۵۔ شَبَّبَ الكتابَ: کتاب شروع کرنا۔

۶۔ الشَّبّ (ك): پھٹکری سے مشابہ ایک نمک جو کان سے نکالا جاتا ہے۔ الشَّبَّابة: بانسری۔ المُشِبّ (ح): شیر۔

○ شاوُش جمع شوَّاس: سارجنٹ، چپڑاسی، دربان، چوکیدار۔ شاويش: شاف سارجنٹ، وکیل۔ شاويش: (ملٹری کا ایک رتبہ) سارجنٹ۔ شاي: چائے۔

شب: ـ شَبابًا و شَبيبةً: نوجوان یا جوان بن جانا، الحق بالمرء جوانی والا ہونا، بڑا ہونا۔ ـــ شُبوبًا: آگ لگنا۔ جنگ شروع ہو جانا۔ شَبّت نيرانُ الحرب: لڑائی شروع ہو گئی۔ شبّ عن الطوق: ابتدائی مراحل پر ہونا۔ شَبّ: پھٹکوی (alum)۔ شَبَّة: پھٹکوی۔ تجديد الشباب: اعادۂ شباب۔ مَشْبوب: روشن، روشن کیا ہوا، جلایا ہوا، آگ لگایا ہوا، جلتا ہوا، شعلے مارتا ہوا، خوبصورت۔

شبت: الشِّبِتّ یا الشِّبِت (ن): ایک پودا (dill)۔ سوئے کا ساگ۔

شبث: شَبِثَ ـ شَبَثًا بكذا: سے چمٹنا، متعلق ہونا۔ تَشَبَّثَ بكذا: سے چمٹنا، متعلق ہونا۔ الشَّبَث جمع أشبَاث و شِبثان (ح): مکڑی، بہت ٹانگوں والا ایک کیڑا، ترن تلا (tarantula)۔ رجُلٌ شَبِثٌ: آسانی سے نہ چھوڑنے والا، اپنی بات پوری کئے بغیر نہ چھوڑنے والا، مستقل مزاج۔ رجُلٌ شُبَثَةٌ: اپنے ساتھی کے ساتھ ساتھ رہنے والا۔ الشِّبَّاث و الشُّبُوث: شبابیث کا واحد: سنڈاسی۔

○ شبث ـ و تَشَبَّثَ ب: سے چمٹنا، چمٹ جانا، لپٹنا، لگا رہنا، کے ساتھ ساتھ رہنا، کو مضبوطی سے پکڑنا، کو تھامے رکھنا۔ اپنے آپ کو سے منسلک کرنا، منسلک کرنا، کے ساتھ لگا رہنا، سے وابستہ رہنا۔ تَشَبُّث: مضبوطی، استحکام، استقلال، لگاؤ، وابستگی، طرف داری، ہوا خواہی، پیروی، وفاداری، ضد، ہٹ دھرمی، سرکشی، منہ زوری۔ مُتَشَبِّث: وابستہ، طرف دار، ہوا خواہ، ہٹ دھرم، سرکش، منہ زور۔

شبح: ا۔ شَبَحَ ـ شَبْحًا الجلدَ: کھونٹیوں کے درمیان چمڑے کو تاننا۔ ـــ الرجُلَ: کو کوڑے مارنے کے لئے اس کے ہاتھ پھیلانا، سولی پر لٹکنے والے کی طرح ہاتھ پھیلانا۔ ـــ الداعيُ: دعا کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ شَبُحَ ـ شَباحةً: لمبے چوڑے بازوؤں والا ہونا۔ شَبَّحَ الشيءَ: کو چوڑا کرنا۔ تَشَبَّحَ الحِرباءُ على العود: گرگٹ کا لکڑی پر دراز ہونا۔ الشَّبح و الشَّبَح جمع شُبُوح و أشباح: بلند و بالا دروازہ۔ الشُّبحة: گھوڑے کی ٹانگیں باندھنے کی رسی۔ الشَّبحان: لمبا۔ الشِّبحان: سامان لیجانے کے دو تختے۔

۲۔ شَبَحَ ـ شَبْحًا الشيءَ: کو پھاڑنا۔ شَبَحَ الشيءَ: کا چھلکا اتارنا، کو چھیلنا۔ الشُّبحة: اسم مرة۔ کہتے ہیں: نزع سَقف بيتي شُبحةً شُبحةً: اس نے میرے گھر کی چھت ایک ایک لکڑی کر کے ادھیڑ ڈالی۔

۳۔ شَبَحَ ـ شَبْحًا فلانٌ: سیدھا کھڑا ہونا۔ شَبَحَ: بوڑھا ہو کر کمزوری نظر کے باعث ایک کے دو دیکھنا۔ الشَّبح و الشَّبَح جمع شُبُوح و أشباح: شخص۔ أشباحُ المال: اونٹ بکری وغیرہ جو نظر آئیں۔ نظر آنے والا مال از قسم اونٹ اور بکریاں وغیرہ۔ الصُّورُ المُشبَّحة: سینما گھروں میں پردۂ سیمیں پر دکھائی جانے والی تصویریں۔ الشِّبحان: سامان لیجانے کے دو تختے۔

○ شَبَح و شَبْح جمع شُبوح و أشباح: دھندلی غیر واضح شکل، سایہ، بھوت، وہمی صورت، روح، پیکر خیالی، طیف، جن بھوت، کابوس، صورت، شخص، جسم، بدن۔

شبد: الشِّبدِع و الشِّبْدَع و الشِّبدِعة جمع شَبادِع (ح): بچھو، مصیبت۔

شبر: ا۔ شَبَرَ ـ شَبْرًا الثوبَ و نحوه: کپڑے وغیرہ کو بالشت سے ناپنا۔ شَبَّرَ الشيءَ: کا اندازہ کرنا۔ أَشْبَرَ الرجُلُ: دراز قد بیٹوں والا ہونا، کوتاہ قد بیٹوں والا ہونا (ضد)۔ تشابَرَ الفريقان في الحرب: جنگ میں دو فریقوں کا ایک دوسرے کے قریب آ پہنچنا۔ الشَّبْر: قد، عمر۔ الشِّبْر جمع أشبار: عمر، بالشت۔ کہتے ہیں: هو قصير الشِّبر: وہ نزدیک قدم رکھنے والا ہے۔ الشُّبْرَة: قامت قد، قد و قامت۔ فلانٌ أَشْبَرُ مِنكَ: اس کی بالشت تمہاری بالشت سے بڑی ہے۔

۲۔ شَبَرَ ـ شَبْرًا هُ مالاً: کو مال دینا۔ أَشْبَرَهُ مالاً: کو مال دینا۔ الشَّبْر (مص): مہر۔ (کہتے ہیں: تزوّجها و لم يُعطها شَبْرَها: اس نے عورت سے شادی کی مگر اس کا مہر نہیں دیا۔) شادی۔ الشَّبْر: عطیہ۔ خیر۔ انجیل۔ ذریعہ و تقرب الی اللہ۔ شاعر کا قول ہے: الحمد لله الذى اعطى الشَّبَر: تعریف اس خدا کی جس نے انجیل یا ذریعہ تقرب الٰہی عطا

فرمایا۔ الشِبرَۃ: عطیہ۔ المَشَابِر واحد مَشْبَر و مَشْبَرۃ: نشیبی ندیاں جن میں آس پاس کی زمینوں کا پانی سمٹ آئے۔

۳۔ شَبِرَ - شَبَراً الرجلُ: اکڑنا، اترانا۔

۴۔ شَبَّرَ فلاناً: کی تعظیم کرنا۔ أَشْبَرَ فلاناً: کو فضیلت دینا۔ تَشَبَّرَ: بڑا ہونا۔

۵۔ الشَّبُّور ج شَبَابِیر و شَبُّورات: بگل (عبرانی) الأُشْبُور (ح): ایک قسم کی مچھلی۔

۶۔ شَبْرَقَ ہُ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، چیتھڑے چیتھڑے کرنا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ـــ البازی الصیدَ: شکرے کا اپنے شکار کو چیر پھاڑ ڈالنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: شبرق الموسی علی الجلد: اس نے چمڑے پر استرا تیز کیا، تاکہ اس کی دھار بیٹھ جائے۔ الشِبَارِق و الشُبَارِق: ٹکڑے۔ کہتے ہیں: ثوبٌ شَبَارِق و شُبَارِق و شَبَارِیق و شِبْرِق: ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا کپڑا۔ الشِبْرَاق من کل شیء: ہر شئے کی شدت۔ ثوبٌ شِبراق: ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا کپڑا۔ الشِبْرِقَة: کپڑے کا ٹکڑا۔

۷۔ شَبْرَقَتِ الدابۃُ فی مشیها: جانور کا چلنے میں کشادہ کشادہ قدم رکھنا۔

۸۔ الشِبْرِق جمع شَبَارِق (ح): بلی کا بچہ۔

○ شَبَرَ - شَبْراً ہ: کو بالشت کے ساتھ ناپنا۔ شَبَّرَ ہ: ایضاً ـــ: اشاروں سے باتیں کرنا، اشارے کرنا۔ شِبْراً فشِبْراً: انچ انچ کر کے۔ شِبْرٌ من الارض: ایک فٹ زمین۔ قَلَّدہ شِبْراً لِشِبْرٍ و ذراعا بذراع: کی مذہبی طور پر پائی پائی تقلید کرنا۔ شَبُّور جمع شَبُّورات و شبابیر: ترم، بگل۔ شِبُّورۃ و شابُورۃ: کہر، کہرا، سخت دھند، دھند۔

○ شَبْرَقَة: جیب خرچ pocket money۔ شِبْشِب جمع شَبَاشِب: سلیپر slipper۔

شبص: تَشَبَّصَ الشجرُ: درخت کا گنجان ہونا۔ الشَبَص: درخت کے کانٹوں کا ایک دوسرے سے الجھا ہونا، خشونت۔

شبط: شُبَاط: ماہ فروری۔ الشُبُّوط و الشَبُّوط و الشَبُوط ج شبابیط (ح): چھوٹے سر اور چوڑے بدن والی ایک قسم کی دریائی مچھلی۔

شبع: ا۔ شَبِعَ - شَبْعاً و شِبَعاً من الطعام: کھانے سے سیر ہونا۔ کہتے ہیں: شبعتُ من هذا الامر و رویتُ: میں اس بات سے اکتا گیا ہوں۔ شَبِعَتْ غنمُہُ: سیر ہونے کے قریب ہونا (کی بکریوں کا)

أَشْبَعَ ہُ: کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ ـــ الثوبَ من الصبغ: کپڑے کو اچھی طرح رنگ دینا۔ تَشَبَّعَ: سیر ہونے کا بہانہ کرنا، اظہار کرنا کہ اس نے سیر ہو کر کھا لیا ہے۔ بہت کھانا۔ الشِبْع و الشِبَع: اس قدر کھانا جو سیر کر دے۔ الشُبَاعَة: سیری کے بعد بچ جانے والا کھانا۔ الشُبْعَة: کھانے کی مقدار جو ایک بار سیر کر دے۔ الشَبْعَة: شکم سیر (مونث)۔ الشَبْعَان م شَبْعَی و شَبْعَانَة ج شِبَاع و شَبَاعَی: شکم سیر۔ کہتے ہیں: هی شَبْعَی الذراع: وہ بڑے بازو والی ہے۔ شَبْعَی الخلخال او السوار او الدرع: فربہ، موٹی۔

۲۔ شَبُعَ - شَبَاعَةً عقلُہُ: بڑا عقلمند اور سنجیدہ ہونا۔ أَشْبَعَ الشیءَ: کو بڑھانا۔ ـــ الکلامَ: مکمل اور پوری بات کرنا۔ الشَبِیع جمع شُبُع: بکثرت، کثیر۔ کہتے ہیں: ثوبٌ شَبِیعُ الغزلِ: بہت سوت والا کپڑا۔ رجلٌ شبیع العقل: بہت عقل والا۔ حبلٌ شبیعٌ: کئی لڑیوں والی رسی۔

○ شَبِعَ ہ/من: سے پُر ہونا، بھرا ہوا ہونا۔ من: سے اکتا جانا، سے منہ پھر جانا، سے بیزار ہونا، کو کافی حاصل کر لینا۔ شَبَّعَ ہ ب: کو (بجلی) سے بھرنا، میں (بجلی) چارج کرنا۔ تشبَّعَ ب: میں (بجلی) بھرا ہوا ہونا۔ اشبع ہ ب: میں (بجلی) بھرنا۔ شَبِعَ ہ/من: سے پُر ہونا۔ شَبَّعَ ہ: خواہشات کی تسکین کرنا۔ أُشْبِعَ ب: سے پُر ہونا، بھرا ہوا ہونا۔ أَشْبَعَ الکلامَ فیہ: کے متعلق تفصیل سے بات کرنا، کو تفصیل سے بیان کرنا، کی مفصل تشریح کرنا۔ أَشْبَعَہُ ضرباً: کی خوب پٹائی کرنا۔ أَشْبَعَ ہ: میں پوری پوری شرکت کرنا، کو پورا پورا اختیار کرنا۔ إشباع: سیر کرنا، جی بھر دینا، بھرنا، پُر کرنا، تسکین کرنا، تشفی کرنا۔ مُشْبَعٌ ب: سے سیر، جی بھرا، سے پُر۔ مُشَبَّع بالکهرباء: بجلی بھرا ہوا electrically charged۔

شبق: شَبِقَ - شَبَقاً: بہت شہوت والا ہونا صفت: شَبِق م شَبِقَة ـــ من اللحم: گوشت سے بدہضمی ہونا۔ عام لوگ کہتے ہیں: شبقه بالعصا: یعنی اس نے اسے لاٹھی سے مارا اور لاٹھی کو شابوقہ کہتے ہیں۔ الشُوبَق جمع شَوَابِق: بیلن (فارسی) مشہور شوبک ہے۔

○ شَبِقَ - شَبَقاً: بدکار، تماشبین، عیاش، اوباش اور شہوت پرست ہونا، بندۂ نفس ہونا۔ شَبَق: شہوت پرستی، عیاشی، آوارگی۔ شَبِق: بدکار، تماشبین، عیاش، اوباش، شہوت پرست، بندۂ نفس، آوارہ۔

شبك: ا۔ شَبَکَ - شَبْکاً الامورَ: امور کا پیچیدہ ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، ملانا۔ آپ کہتے ہیں: شبکتُ اصابعی بعضها فی بعض اور شبکت بین اصابعی: میں نے اپنی انگلیاں ایک دوسری میں داخل کیں۔ شَبَّکَ الشیءَ: کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، ملانا۔

• شابك بین الاصابع: انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرنا۔ أَشْبَکَ القومُ: نزدیک نزدیک کنویں کھودنا۔ ـــ المکانُ: جگہ کا قریب کنویں والی ہونا۔ تَشَبَّکَ: مختلط ہونا، پیچیدہ ہونا، الجھا ہوا ہونا۔ ـــ الکلامُ و الامورُ: کلام یا امور کا غیر واضح اور مبہم ہونا، مشکوک ہونا، ذومعنی ہونا۔ عام لوگ کہتے ہیں: تَشَبَّکَ فلانٌ: وہ سردی سے سکڑا۔ تَشَابَکَتِ الامورُ: امور کا گڈمڈ اور مبہم ہونا۔ إشْتَبَکَ: مختلط ہونا، پیچیدہ ہونا۔ الشَبَکَة جمع شَبَک و شِبَاک و شَبَکَات: شکاری کا جال، بہت کنووں والی زمین، کنویں جو ایک دوسرے کے قریب اور بکثرت ہوں۔ الشُبْکَة: قرابت۔ کہتے ہیں: بینهما شُبکة: یعنی ان کے درمیان قرابت ہے۔ طریقٌ شابك جمع شَوَابِك: شگی اور پیچیدہ راستہ۔ الشَبَّاك: جال بنانے والا۔ الشُبَّاك ج شَبَابِيك (ب): جالی دار کھڑکی، کھڑکی، شکاری کا جال، شکاری لوگ، صراحی، جھجھری، گھڑے یا جگ کا ڈھکن جس میں کئی سوراخ ہوں۔ الشَبَائِك: جھگڑے۔ المُشَبَّك: ایک قسم کا میٹھا کھانا۔

۲۔ شَبِکَ - شَبْکاً عنه: کو سے غافل کرنا۔

○ شَبَکَ - شَبْکاً ہ: کو باہم دگر جوڑنا، بننا، الجھانا، پھنسانا، ملانا۔ ـــ ہ ب/ض: کو سے جوڑنا، باندھنا، نتھی کرنا۔ شَبَّکَ ہ/بین: کو باہم دگر کے ساتھ جوڑنا، گوندھنا، بل دے کر ایک کرنا، سے الجھانا، خلط ملط کرنا، پیچیدہ کرنا۔ تَشَابَکَ: باہم دگر گندھنا، بنا جانا، الجھنا، پھنسنا، جال کی طرح باہم بنا ہونا، آپس میں پھنسا ہونا۔ اِشْتَبَکَ: باہم گڑا ہوا ہونا، بنا ہوا ہونا، جال کی طرح ہونا (شاخوں کا) باہم دگر گندھا ہونا، (ہاتھوں کا) ایک دوسرے میں پھنسا ہونا، باہم الجھا ہونا یا ہو جانا، (فی) میں پھنس جانا، پیچیدہ ہونا، الجھنا، لپیٹ میں آنا، مختلط ہونا، گڈمڈ ہونا۔ ـــ (ب/مع): سے گتھم گتھا ہونا، سے ہاتھا پائی پر اتر آنا۔ ـــ (معاملہ کا) پیچیدہ ہونا، الجھا ہوا ہونا، گڈمڈ، درہم برہم، غلط ملط ہونا۔ ـــ ب: کے ساتھ وابستہ ہونا، متحد ہونا، گٹھ جوڑ کرنا، ایک

پلیٹ فارم پر جمع ہونا، انضمام ہونا، ایک ہونا۔ اشتبك في حديث: گفتگو میں شامل کیا جانا، منہمک کیا جانا۔ اشتبك في حرب: جنگ میں منہمک ہونا۔ شَبَكة: گرڈ (ریڈیو)۔ شبكة شائكة: خاردار رکاوٹ، کنسرتینہ concertina۔ ایک قسم کا باجہ۔ شبكة لاسلكية: ریڈیو نیٹ ورک۔ شَبَكِية: آنکھ کا پردہ retina۔ شُبّاك جمع شَبابيك: نیٹ ورک، گرڈ۔ grid۔ گرل (grill)، کھڑکی، وکٹ (wicket) (ڈاکخانہ، سینما کے ٹکٹ گھر وغیرہ کی)۔ شُبّاك العرض: نمائش کی کھڑکی (show window)۔ شوکیس showcase۔ مِشْبَك جمع مَشابِك: ہک، کانٹا، آنکڑا، مچھلی پکڑنے کا آلہ، بکسوا، پن، بالوں میں لگانے والی پن، بوبی پن (bobby pin)۔ مِشْبَكُ الورق: پیپر کلپ (paper clip)۔ عدم الاشتباك في القتال: جنگ میں عدم مداخلت۔ اشتباك: دست بدست جنگ۔

شبل: ۱۔ شَبَلَ ـُ شُبُولاً الغلامُ: لڑکے کا ناز و نعمت میں پلنا صفت: شابِل۔ ــ في بني فلان: فلاں قبیلہ میں پرورش پانا۔ أشْبَلَ عليه: پر شفقت کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ ــت المرأة على اولادها: عورت کا خاوند کے مرنے کے بعد بچوں کی نگرانی کرنا اور نکاح نہ کرنا۔

۲۔ شَبَلَ ـ شُبُولاً بالخياطة في اصطلاح العامة: دور دور ٹانکے لگانا، بخیے لگانا (سریانی)۔

۳۔ الشِّبْل جمع أشْبال و شِبال و أشْبُل و شُبُول (ح): شیر کا بچہ جب شکار کرنے کے قابل ہو۔ ابو الاشبال: شیر۔ لبوءة مُشْبِل: بچوں والی شیرنی۔ مكانٌ مشبول: وہ جگہ جہاں بہت سے شیر کے بچے ہوں۔

(ن) أشْبَلَ على: کی نگرانی یا نگہداشت کرنا، کی دیکھ بھال کرنا۔

شبم: شَبَمَ ـ شَبْمًا و شَبَّمَ الجديَ: بکری کے بچہ کے منہ میں تھوتھنی لگانا۔ الشِّبام: وہ لکڑی جو بکری کے بچہ کے منہ میں لگادی جاتی ہے تاکہ وہ دودھ نہ پی سکے۔ عورتوں کے برقع کی دو ڈوریاں جن کو وہ گدی پر باندھ لیتی ہیں۔ الشِّبَمُ: بمعنی شِبام یعنی بکری کے بچہ کے منہ میں لگائی جانے والی لکڑی۔ المُشَبَّم: تھوتھنی باندھا ہوا بکری کا بچہ، بھوکا۔

۲۔ شَبِمَ ـ شَبَمًا الماءُ: پانی ٹھنڈا ہونا۔ الشَّبَم: سردی۔ الشَّبِم م شَبِمَة: صبح و شام یا بھوک کے ساتھ صبح و شام، اسلحہ، زہر، موت۔

شبن: ۱۔ شَبَنَ ـ شَبْنًا الغلامُ: لڑکے کا نازک بدن اور پر گوشت ہونا۔ الشابن من الغلمان: نازک بدن، پر گوشت لڑکا۔ الشَّبَنِي و الأشْبَنِي و الشَّبّاني: سرخ چہرے اور مونچھوں والا۔

۲۔ شَبَنَ ـ شُبُونًا الشيءُ: چیز کا قریب و نزدیک ہونا۔

۳۔ الشَّبين و الإشبين جمع أشابين: دولہا کا خدمتگار۔ شَبِينة و إشْبِينة: دلہن کی خدمتگار (سریانی)۔

(ن) شَبِين و شِبين جمع شَبائِن: دینی باپ (عیسائی مذہب میں) بہترین آدمی، دولہا کا آدمی (عیسائی مذہب میں)۔ شبينة جمع شبينات: دینی ماں، دلہن کی سہیلی (عیسائی مذہب میں)۔ اشبين جمع اشابين: بمعنی شِبين اِشْبِينة: بمعنی شَبِينة۔

شبه: ۱۔ شَبَّهَ إيّاهُ و شَبَّهَهُ به: کو سے تشبیہ دینا، کو کے مانند ٹھہرانا۔ شابَهَهُ و أشْبَهَهُ: کی مانند ہونا، کے مشابہ ہونا۔ کہتے ہیں: أشْبَهَ فلانٌ أمَّهُ: وہ عورت کی طرح عاجز و کمزور ہے۔ ما اشبه الليلة بالبارحة: آنے والا جانے والے کے کتنا مشابہ ہے۔ تَشَبَّهَ به: کی نقل کرنا اور مانند ہونا۔ تَشابَهَ الرجلان: ایک دوسرے کے مانند ہونا، مشابہ ہونا۔ اِشْتَبَها: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ الشَّبَهُ ج أشْباه و مَشابِه: مثل، مانند۔ الشَّبَه: مشابہت: پیتل۔ ــ ج أشباه و مَشابِه: مثل، مانند۔ الشُّبْهَة جمع شُبَه و شُبُهات: مثل۔ الشَّبَهان و الشُّبْهان: پیتل۔ الشبيه جمع شِباه: مثیل، ایک جیسے۔ المُشَبِّهَة: ایک اسلامی فرقہ جو اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے مانند ٹھہراتا ہے۔

۲۔ شَبَّهَ عليه الأمرَ: کسی پر کوئی معاملہ مشتبہ کرنا۔ ــ الشيءُ: مشکل ہونا۔ شُبِّهَ عليه الأمرُ: پر کوئی معاملہ مشتبہ ہونا۔ تَشابَهَ الأمرُ: معاملہ کا متشابہ یعنی غیر محکم ہونا (غیر واضح ہونا)۔ اِشْتَبَهَ في الأمر: بات کے صحیح ہونے پر شک کرنا۔ ــ الأمرُ عليه: پر معاملہ کا غیر واضح ہونا، مخفی ہونا۔ الشُّبْهَة ج شُبَه و شُبُهات: التباس، شک، غیر یقینی، جس میں حق و باطل یا حرام و حلال میں تمیز نہ ہو سکے۔ المُشْتَبَه و المُشْتَبه من الأمور: مشکل یا شکی بات۔ کہتے ہیں: إيّاكَ و المُشْتَبِهات: یعنی مشکل امور سے خود کو بچاؤ۔

(ن) شَبَّهَ ه / ب: کو کسی دوسری چیز کے برابر یا اس جیسا بنانا۔ ــ ه ب: کا کسی اور چیز سے مقابلہ کرنا، کا سے پہلو بہ پہلو رکھ کر مقابلہ کرنا۔ ــ ه ب: کو سے تشبیہ دینا۔ شُبِّهَ على: کے لئے مشکوک، مشتبہ، مبہم، غیر یقینی، غیر واضح ہونا، دھندلا سا ہونا۔ شابَهَ ه: کا سے مشابہ ہونا، کا سے مشابہت رکھنا، کا کسی چیز جیسا ہونا۔ ــ ه، ه: کا کے مانند ہونا۔ ــ ه: کا کسی چیز جیسا دکھائی دینا، ہو بہو ہونا۔ وما شابه ذلك و ما أشْبَهَ ذلك: وغیرہ، وغیرہ۔ تَشَبَّهَ ب: سے اپنا مقابلہ کرنا، سے اپنا موازنہ کرنا، کی تقلید کرنا، نقل کرنا۔ تشابَه: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، ایک دوسرے جیسا ہونا، ایک دوسرے کے برابر ہونا: ہو بہو ہونا، بالکل ویسا ہی ہونا، ویسا ہی ہونا، مبہم ہونا، غیر واضح ہونا۔ اِشْتَبَهَ: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، ایک دوسرے جیسا ہونا۔ ــ في: کے بارے میں شک کرنا، پر شک کرنا۔ ــ في امر يا في شخص او شيء: پر شبہ ہونا، کو مشکوک سمجھنا یا مشتبہ سمجھنا۔ ــ على: پر، کے لئے مشکوک، مشتبہ، مبہم یا غیر واضح ہونا۔ ــ في الامر: اسے معاملہ مشکوک نظر آیا۔ شِبْه جمع أشباه: مشابہت، یکسانیت، مماثلت، عکس، ہو بہو نقشہ، تصویر، مشابہت، جیسا، نیم، کسی حد تک۔ شِبْهُ جزيرةٍ: جزیرہ نما۔ شِبْهٌ حربي: نیم فوجی، نیم عسکری۔ شبه المنحرف: مربع منحرف نما۔ (Trapezoid) (جومیٹری)۔ شِبْهُ رَسْمي: نیم سرکاری خواہ مخواہ خدمت پر کمربستہ۔ شِبْه قارة: برصغیر۔ شِبْهُ المُعَيَّن: معین نما شکل۔ أشْباهُهُ: اس جیسے، اس کی قسم کے۔ و شِبْهُهُم: ان جیسے، ان کی قسم کے (لوگ)۔ في شبه عُزْلَةٍ تامة: تقریباً، قریب قریب یا بالکل تنہا۔ شُبْهَة جمع شُبُهات: گمنامی، تاریکی، دھندلاپن، ابہام، غیر یقینیت، شک، شبہ۔ مغالطہ آمیز استدلال یا بحث، سوفسطائیت، مغالطہ آمیزی، عدالتی غلطی۔ ذو الشبهات یا اصحاب الشُّبُهات: مشتبہ افراد، بدنام لوگ۔ تحت الشُّبْهَة: مشتبہ، مشتبہ شخص۔ شَبِيهٌ ب: کے مماثل، کے مانند، کے مشابہ۔ شبيه بالرسمي: نیم سرکاری، خواہ مخواہ خدمت پر کمربستہ۔ أشْبَه: زیادہ مماثل، زیادہ مشابہ، زیادہ مانند۔ هو أشْبَهُ ب: وہ اس کا ہم شکل ہے، اس کے مشابہ ہے، ہو بہو وہی ہے۔ مَشابِه: مشابہات، مماثلات، متعلقہ خصوصیات۔ تشبيه: مقابلہ، موازنہ۔ مثالیہ مجازیہ allegory، تشبیہ simile، تمثیل، مثال parable، تشبیت (anthropomorphization) (اللہ تعالیٰ سے

انسانی صفات منسوب کرنا)۔ تَشَبَّہ ب: کی تقلید، نقل۔ مشبوہ: مشکوک، مشتبہ، بدنام، متشابھات: قرآن کے وہ مقامات جو مبہم ہیں اور واضح طور پر قابل فہم نہیں۔ مُشْتَبَہٌ فیہ یا مُشْتَبَہٌ فی امرہ: مشتبہ، مشکوک۔ مُشْتَبَہٌ فیہ ب: کا مشتبہ۔ مُشْتَبَہٌ فی صنعہ: مشکوک بناوٹ کا۔

شبا: ۱۔ شَبَا ـ شَبْوًا الشیءُ: بلند ہونا۔ ـ الفرسُ: گھوڑے کا دو ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔ اَشْبَی اِشْبَاءً الشجرُ: درخت کا لمبا اور الجھا ہوا ہونا۔ الشَّبَاۃ جمع شَبًا و شَبَوات: دو ٹانگوں پر کھڑا ہونے والا گھوڑا۔

۲۔ شَبَا ـ شَبْوًا الوجہُ: چہرے کا تغیر کے بعد چمکنا۔ ـ النار: آگ جلانا، روشن کرنا۔

۳۔ اَشْبَی اِشْبَاءً الرجلَ: کو دینا۔ ـ ہُ: کی اکرام و تعظیم کرنا۔ ـ علیہ: پر مہربان اور شفیق ہونا۔

۴۔ اَشْبَی اِشْبَاءً ہُ: کو مصیبت میں ڈالنا۔ ـ الشیءَ: کو بٹانا۔ الشَّبْو: دکھ، تکلیف۔

۵۔ أَشْبَی اِشْبَاءً الرجُلُ: کے ہاں ذہین بچے پیدا ہونا۔ ایسا شخص مُشْبًی و مُشْبٍ کہلاتا ہے۔ ـ الاولادُ أباھم: اولاد کا اپنے باپ کے مشابہ ہونا۔

۶۔ الشَّباۃ ج شَبًی و شَبَوات (ح): بچھو پیدا ہونے کے وقت یا زرد رنگ کا بچھو۔ بچھو کا ڈنک۔ ہر چیز کی حد۔ بیوقوف آدمی۔ کہتے ہیں: ھذا رجُل شَبَاۃ: یہ آدمی بے وقوف ہے۔ ـــ من السَّیف: تلوار کی دھار۔ شَبُوَۃ: بچھو کا علم جنس، غیر منصرف ہے، بوجہ علمیت و تانیث، کبھی اس پر ال بھی آتا ہے۔

○ شَبًی: سرا، نوک، ڈنک، کانٹا، خار۔

شتّ: شَتَّ ـ شَتًّا و شَتَاتًا و شَتِیتًا: پراگندہ ہونا، متفرق ہونا۔ ـــ و شَتَّتَ و أَشَتَّ الاشیاءَ: کو متفرق کرنا، بکھیرنا۔ کہتے ہیں: أَشَتَّ بِی قَوْمِی: میری قوم نے میرے کاموں کو پراگندہ کر دیا۔ تَشَتَّتَ و انْشَتَّ و اسْتَشَتَّ الشملُ: بکھرنا، متفرق ہونا۔ الشَّتّ (مص): پراگندگی۔ ـــ و الشَّتَات ج أَشْتَات: متفرق، پراگندہ، یہ مصدر کے ذریعے صفت ہے۔ کہتے ہیں: جَاءُوا اشتاتا و جاءُوا شَتَاتَ شَتَاتَ: وہ متفرق ہو کر آئے، نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے۔ شَتَّانَ: اسم فعل بمعنی بعُد (دور ہوا) کہتے ہیں۔ شَتَّانَ بینھما، و شتان بینھما و ماھما و ما زیدٌ و اخوہُ: ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ الشَّتِیت (مص) جمع شَتّی: متفرق، بکھرا ہوا۔ ثَغْرٌ شَتِیت: فالج زدہ منہ۔

اُنَاسٌ شَتَّی و شُتُوت: مختلف نسلوں کے لوگ۔ اَشْیَاءٌ شَتَّی: مختلف اشیاء، کہتے ہیں: وَقَعُوا فی امرٍ شَتَّی: وہ مختلف امور میں تقسیم ہو گئے۔

○ شَتَّ و شَتَّتَ شَمْلَھُمْ: لوگوں کے اجتماع کو منتشر کر دینا، ان کا جلسہ ختم کرنا، ان کے اتحاد کو توڑ دینا۔ شَتّ جمع اَشْتَات: منتشر، جدا (کیا ہوا)، بکھرا ہوا، توڑا ہوا۔ أُشْتَات: کئی گنا، بوقلموں، متنوع، مختلف، طرح طرح کا۔ اشتات مِن: کے بکھرے ہوئے ٹکڑے، حصے، طبقے، وغیرہ۔ شَتَّانَ بینھما: ان دونوں میں کتنا فرق ہے یا وہ کتنے مختلف ہیں۔ شَتَّان ما بینھما و شَتَّانَ بین ...... و ......: ان کے درمیان کتنا فرق ہے یا وہ کتنے مختلف ہیں۔ تَشْتِیت: منتشر کرنا، بکھیرنا، توڑنا، پھاڑنا، ٹکڑے کرنا۔

شتر: ۱۔ شَتَرَ ـ شَتْرًا الشیءَ: کو کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ـ الرجلَ: کو زخمی کرنا۔ ـ العینَ: پلک الٹنا۔ شَتِرَ ـ شَتَرًا: کٹنا، منقطع ہونا، کا نیچے کا ہونٹ پھٹا ہونا۔ ـــ و شُتِرَ: پلٹی ہوئی پلکوں والا ہونا یا نیچے کی پلک کا ڈھیلا ہونا۔ شَتَّرَ عینَہُ: پلک الٹنا۔ اِنْشَتَرَتْ عینُہُ: آنکھ کا الٹی ہوئی پلک والا ہونا۔ الشَّتَر (مص): قطع و برید، پلکوں کا الٹاؤ یا پھٹا ہوا ہونا۔ الشُّتْرَۃ: دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔ الأشْتَر م شَتْراء جمع شُتْر: پلٹی ہوئی یا پھٹی ہوئی پلک والا، نیچے کی ڈھیلی پلک والا۔ نیچے کے پھٹے ہوئے ہونٹ والا۔

۲۔ شَتَرَ ـ شَتْرًا بہ: کو گالی دینا۔ شَتَّرَ بہ: کی مذمت کرنا، عیب گوئی کرنا، کو گالی دینا، پر نکتہ چینی کرنا، کو بری باتیں سنانا۔ الشَّتْر: عیب، نقص۔ الشِّتِّیر: بڑا عیب دار اور شر پسند، بد خلق۔

○ شِتَرات: ترنجی، ترش کا نمک۔

شتع: شَتِعَ ـ شَتَعًا: بیماری یا بھوک سے گھبرا اٹھنا۔

شتغ: شَتَغَ ـ شَتْغًا ہُ: کو روندنا، ذلیل کرنا۔ اَشْتَغَ ہُ: کو تلف کرنا۔ المَشَاتِغ: ہلاکتیں۔

شتل: شَتَلَ ـ شَتْلًا و شَتَّلَ الشتلَ: پنیری اکھیڑ کر دوسری جگہ لگانا یا گاڑنا (سریانی)۔ الشَّتْلَۃ: شتل کا واحد: پنیری۔ المَشْتَل: پنیری اگانے کی جگہ۔ المَشْتُول: ڈھیلے ڈھالے بے ترتیب لباس والا (عام لوگوں کی زبان میں)۔

شتم: ۱۔ شَتَمَ ـ شَتْمًا و مَشْتَمَۃً و مَشْتِمَۃً و مَشْتُمَۃً و تَشْتَامًا ہُ: کو گالی دینا۔ ـــ شَتَمًا ہُ: کو گالی دینے میں غالب ہونا۔ شَتَّمَ ہُ: کو بہت گالیاں دینا۔ شَاتَمَ ہُ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔ تَشَتَّمَ: گالی کا مستحق ہونا۔ تَشَاتَمَ القومُ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔ الشَّتِیمَۃ جمع شَتَائِم: گالی۔ الشَّتَّام و الشَّتَّامَۃ: بدخلق۔ الشَّتَّام و الشَّتَّامَۃ: گالیاں دینے کا عادی، بہت دشنام دینے والا۔

۲۔ شَتُمَ ـ شَتَامَۃً: بدشکل ہونا صفت: شَتِیم۔ الشَّتَامَۃ (مص): بدصورتی کے ساتھ بدخلقی۔ الشُّتَام و الشُّتَامَۃ: بدشکل۔ الشتامۃ: غضبناک شیر۔

○ شَتَمَ ـ شَتْمًا و شَاتَمَ ہُ: کو گالی دینا، سے سخت کلامی کرنا، سے دشنام طرازی کرنا، کو بدنام کرتے پھرنا، کو جھاڑ جھپاڑ کرنا۔ تَشَاتَم: ایک دوسرے کو بدنام کرتے پھرنا، گالی دینا، ایک دوسرے پر لعنتیں کرنا۔ شَتَّام: گستاخ، ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا، بدتمیز، بے ہودہ، بدلگام، غیر مہذب، غیر مہذبانہ۔ شتیم: جس کو گالی دی گئی ہو، بدنام کیا گیا ہو، جس کی توہین کی گئی ہو۔

شتا: شَتَا ـ شَتْوًا بالبلد: شہر میں موسم سرما گزارنا۔ ـ المکانَ: میں سردی کے موسم کے دوران ٹھہرنا۔ ـ الشِّتَاءُ: سردی پڑنا۔ ـــ و شَتِیَ و أشتی القوم: موسم سرما میں داخل ہونا، سردی کے موسم میں خشک سالی کی مصیبت جھیلنا۔ کہتے ہیں: ھذا شیءٌ یُشْتِینِی: یہ چیز، میرے لئے موسم سرما میں کافی ہے۔ شَتَّی تشتیۃً بالبلد: کسی شہر میں سردی کا موسم گزرنا۔ ـ ہُ: کا کسی کے لئے موسم سرما میں کافی ہونا۔ ـــ تِ الدنیا فی استعمال العامۃ: بارش ہونا۔ شَاتَی مُشَاتَاۃً و شِتَاءً الرجلَ: سے موسم سرما پر یا موسم سرما کے لئے معاملہ کرنا۔

○ شتا ـ شَتْوًا ب: کسی جگہ موسم سرما گزارنا یا کسی جگہ سردیاں کاٹنا، ـــ: جاڑے میں سوتے رہنا۔ شتی: بارش ہونا۔ تَشَتَّی ب: کسی جگہ موسم سرما گزارنا، سردیاں کاٹنا، سردیوں میں سوتے رہنا۔ شِتَاء جمع أَشْتِیَہ و شُتِیّ: سردی کا موسم، سردیاں، موسم سرما، سرما، بارشیں، بارشوں کا موسم۔ شَتَوِی: سردی کا، سردی کے موسم کا، سردیوں کا۔ مَشْتًی جمع مَشَاتٍ: سردیوں کی رہائشگاہ، سردیاں گزارنے کا مقام، سردیوں کی تفریح گاہ۔ مُشْتًی بمعنی مَشْتًی۔ مشاتٍ: سردی کا، موسم سردی کا۔ تَشَتَّی تَشَتِّیًا بالبلد: کسی شہر میں موسم سرما گزارنا۔ ـ المکانَ: کسی جگہ موسم سرما میں ٹھہرنا۔ الشِّتَاء جمع اشتیۃ و شُتِیّ: سردی کا موسم ۲۱ دسمبر سے ۳۱ مارچ تک۔ نسبت کے لئے شَتْوِی و شَتَوِی۔ ـ و الشتا: قحط۔ فاکھۃ الشتاء: آگ۔ الشَّتَاۃ و الشَّتْوَۃ: موسم سرما۔

صاحب الشَّتوَة: وہ شخص جس کے پاس سردی کے
موسم میں پناہ ملے۔ الشَّتِيُّ: موسم سرما کی بارش۔
الشَّاتِي: موسم سرما کا۔ يوم شاتٍ و غداة
شاتِيه: سردی کا دن، سردی کی صبح۔ الشَّتوِي:
موسم سرما کی بارش۔ المَشتَى و المَشتَاة جمع
المَشاتِي: سردی کا زمانہ، یا جگہ، سرما کے ایام گزارنے
کی جگہ۔ هذه مَشاتِينا و مَصَايِفنا و مَرَابِعنا:
یہ ہماری سردی گرمی اور بہار گزارنے کی جگہیں ہیں۔

شث: الشَّث جمع شِثاث واحد شَثَّة (ن): جنگلی
اخروٹ۔ (ح): شہد کی مکھیاں، پہاڑ کی چوٹی کا
کنگرہ، ہر چیز کی بہت زیادہ تعداد۔

شتر: شَتِرَ - شَتَرًا عينهُ: آنکھ موٹی ہونا۔ الشُّتر ج
شُتُور: پہاڑ کا کنارہ۔ قناة شَتِرة: پھٹا ہوا نیزہ۔

شثل: شَثِلَ - شَثَلًا و شَثُلَ - شُثُولَةً ت اصابعهُ:
انگلیوں کا کھردری اور موٹی ہونا۔ شَثْلُ الاصابع:
موٹی اور کھردری انگلیوں والا۔ قَدَمٌ شَثْلَةٌ: موٹے
گوشت والا پاؤں۔

شثن: شَثِنَ: بمعنی شَثِل۔

شجّ: ا۔ شَجَّ - شَجًّا الرأسَ: سر زخمی کرنا، توڑنا۔
کہتے ہیں: فلانٌ يَشُجّ مرّةً و يأسو مرّةً: فلاں
کبھی غلطی کرتا ہے کبھی صحیح۔ ـ المفازةَ: بیابان طے
کرنا۔ ـ الشرابَ بالماء: شراب میں پانی ملانا۔
ـ المركبُ البحرَ: جہاز کا سمندر کو چیرنا۔ کہتے
ہیں: شجّ الارضَ براحلته: سواری کو بہت تیز
چلانا۔ ـ شَجَجًا: زخمی سر والا یا زخم کے نشان
والا ہونا۔ صفت: أَشَجّ و شَجِيج جمع شَجّى
و مَشجُوج و مُشَجّج۔ شَجّجَ هُ: سر کو بہت
زخمی کرنا۔ شَاجّ مُشَاجّةً و شِجَاجًا و تَشاجّ
القومُ: ایک دوسرے کے سر کو زخمی کرنا۔ الشَّجَج
(مص): پیشانی میں زخم کا نشان۔ الشَّجَاج:
ہوا۔ الشَّجَّاج: خصوصا سر کو بہت زخمی کرنے والا۔
الشَّجّة ج شِجاج: سر کا زخم۔ الشجيج و
المُشَجّج: کھونٹی۔

۲۔ شَجَّ على الأمر: کا پختہ ارادہ کرنا۔

○ شَجَّ ۔ ہ: کچھ خصوصا کھوپڑی کو توڑنا، پھاڑنا، دو
ٹکڑے کرنا، (ہڈی) توڑنا، پاش پاش کرنا۔ شَجّة
جمع شِجَاج: سر کا زخم، کھوپڑی کا ٹوٹنا (Skull
fracture)۔

شجب: ا۔ شَجَبَ ۔ شَجْبًا ہُ: کو کھینچ کر مشغول
کرنا۔ (کہتے ہیں: انك لتشجبني عن
حاجتي: تم تو میری توجہ میرے کام سے ہٹاتے
ہو)، کو غمگین کرنا۔ ـ شَجبًا الغرابُ: کوے کا
جدائی کی خبر دینا۔ ـ شَجَبًا و شُجُوبًا و شجب
ـ شَجَبًا: غمگین ہونا۔ صفت: شَجِب و
شَاجِب۔ أَشْجَبَهُ: کو غمگین کرنا۔ تَشَجّبَ:
غمگین ہونا۔ الشَّجَب (مص) ج شُجُوب و
أشجاب: حاجت، غم واندوہ، رنج و تکلیف جو بیماری
یا قتال کی وجہ سے لاحق ہو۔ الشَّاجِبُ من الغربان:
بہت کائیں کائیں کرنے والا کوا۔

۲۔ شَجَبَ ۔ شَجَبًا ہُ: کو ہلاک کرنا۔ ـ شَجْبًا و
شُجُوبًا و شَجِبَ ـ شَجَبًا: ہلاک ہونا، مرجانا۔
ـ الشيءُ: جاتا رہنا۔

۳۔ شَجَبَ ۔ شَجْبًا القنينةَ بشجاب: بوتل کو ڈاٹ
سے بند کرنا۔ تَشَاجَبَ الشيءُ: چیز کا مل جل جانا،
مخلوط ہونا۔ الشَّجْب (مص) ج شُجوبٌ و
أشجاب: گھر کا ستون۔ الشَّاجِب: بہت بکواس
کرنے والا۔ الشِّجاب جمع شُجُب: بوتل وغیرہ
بند کرنے کا ڈاٹ، کارک ڈھکنا۔ ـ و الشُّجُب و
المِشْجَب (مِشجَب کی جمع مشاجب): کھونٹی،
کپڑے ٹانگنے کی کھونٹی، لکڑی کا سٹینڈ جس پر کپڑے
رکھے اور پھیلائے جاتے ہیں۔ الشَّجْباء: مشک۔

○ شَجَبَ ۔ شَجْبًا و شَجّبَ ہُ: کو تباہ کرنا، برباد
کرنا، پر ہلاکت کا حکم سنانا۔ ـ ہ: کی مذمت کرنا، پر
سخت تنقید کرنا۔ أَشْجَبَ ہ: کو ایذا دینا، تکلیف میں
ڈالنا، دکھ دینا، رنجیدہ کرنا، دکھ پہنچانا۔ شَجَب:
تباہی، بربادی، شکست فاش، صفوں میں بھگدڑ مچانا
(دشمن)، پیس ڈالنا، کچل ڈالنا۔ شِجَاب جمع
شُجُب: دیوار میں لگی کپڑے ٹانگنے کی ہک (کھونٹی)۔
مِشجَب جمع مَشَاجِب: کپڑے ٹانگنے کی
دیوار گیر ہک یا کھونٹی، کپڑوں کی ریک clothes
rack

شجر ا۔ شَجَرَ ۔ شَجْرًا الشجرةَ: درخت کے کچھ
حصہ کو پکڑنا۔ شَجِرَ ـ شَجَرًا الرجلُ: بہت
جمعیت والا ہونا۔ شَجَّرَ النباتُ: پودے کا درخت
بننا۔ ـ المكانَ: کسی جگہ درخت لگانا۔ شَاجَرَ
شِجَارًا و مُشَاجَرةً ت الماشيةُ: گھاس اور
سبزی کے نہ ہونے سے مویشیوں کا درختوں کے پتوں
پر گزارہ کرنا۔ ـ الماشيةَ: مویشیوں کو درختوں کے
پتے چرانا۔ أَشْجَرَ المكانُ: کسی جگہ کا درخت
اُگانا۔ الشَّجَر جمع أشجار و شَجْراء واحد
شَجَرة جمع شَجَرات: درخت۔ شَجَرةُ
النسب: آباء واجداد کا نسب نامہ۔ ـ الزَّنبَق: پرچم
پودا (iris)، سوسن کا درخت (lily)۔ شجرة
الحياة: خیر و شر معلوم کرنے کا درخت جس کا پھل
کھانے سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو منع کیا تھا۔ کہتے ہیں:
فلانٌ شجرةُ خيرٍ: فلاں سے فوائد حاصل کئے جا
سکتے ہیں یعنی وہ منبع خیر ہے۔ الشجرة الملعونة:
تھوہر کا درخت۔ الشجرة: اسم مرة۔ مكانٌ شَجِرٌ
و شَجِير و أَشْجَر م شَجِرة و شَجِيرة و
شَجْراء: بہت درختوں والی زمین۔ الشجراء:
گنجان درخت، گنجان درختوں والی زمین اس کا مقابل
مَرْدَاء ہے یعنی وہ زمین جو درختوں سے خالی ہو۔ کہتے
ہیں: قطعتُ كل شجراء و مرداء: میں نے ہر
زمین طے کی وہ بھی جو گنجان درختوں والی تھی اور وہ بھی
جہاں کوئی درخت نہ تھا۔ الشَّجّار جمع شَجّارون:
درختوں کا ماہر۔ المَشجَر ج مَشَاجِر درخت کی
جگہ۔ مكانٌ مُشجِر م مُشجِرة: بہت درختوں والی
جگہ۔ ثوبٌ مُشَجّر بوٹے دار کپڑا، کپڑا جس پر
درختوں کی شکلیں ہوں۔ اہل چین کی تحریر کو بھی مُشَجّر
کہتے ہیں۔ شجّ المَطّاط: ربڑ کا درخت۔ شج
الخبز: نشاستہ دار پھلوں والا درخت۔

۲۔ شَجَرَ ۔ شَجْرًا و شُجُورًا بينهم امرٌ: کوئی
امر لوگوں میں زیر بحث ہونا، مختلف فیہ ہونا، متنازعہ
ہونا۔ کہتے ہیں: شَجَرَ ما بينهم: وہ آپس میں جھگڑ
پڑے۔ ـ شَجْرًا الرجلَ بالرمح کو نیزہ مارنا۔
شَاجَرَ شِجارًا و مُشَاجَرةً ہُ: سے جھگڑنا۔
تَشَاجَرَ القومُ: لوگوں کا آپس میں جھگڑنا، آپس
میں گتھنا۔ تَشَاجَرُوا بالرماح: وہ آپس میں
نیزوں سے لڑے۔ إشتَجَرَ القومُ: قوم کا آپس
میں جھگڑا کرنا۔ الشَّجْر (مص) جمع أشجار و
شُجُور و شِجار: اختلافی بات۔ رِماحٌ شَواجِرُ:
مختلف ضربوں والے نیزے۔

۳۔ شَجَرَ ۔ شَجْرًا الشيءَ: کو باندھنا، جوڑنا،
مربوط کرنا۔ ـ البيتَ: گھر کے ستون لگانا۔ ـ
النباتَ: پودے کی جھکی ہوئی ٹہنیوں کو اونچا کرنا۔
شَجَّرَ النخلَ: ٹوٹنے کے خوف سے کھجور کے خوشے کو
ٹہنی پر رکھنا۔ تَشَاجَرَ الشيءُ: کے بعض کا بعض
میں مل جانا۔ إشتَجَرَ الرجلُ: ٹھوڑی کے نیچے
ہاتھ رکھ کر کہنی کا سہارا لینا۔ الشَّجر ج أشجار و
شُجُور و شِجار: ٹھوڑی یا دونوں جبڑوں کے
درمیان کا حصہ۔ الشَّجرة: چاہ زنخداں۔ الشِّجار:
ہودہ کی لکڑی، چھوٹی پالکی جو اوپر سے کھلی ہو۔
الشِّجار بمعنی شِجار۔ ـ ج شُجُر: دروازہ

کے پیچھے لگانے کی لکڑی، کنویں کی لکڑی۔ المَشْجَر ج مَشَاجِر: ہودہ کی لکڑی، چھوٹی پالکی جو اوپر سے کھلی ہو۔ المِشْجَر ج مَشَاجِر: بمعنی مَشْجَر: کپڑوں کا ریک۔

۴۔ شَجَرَ ـ شَجْراً فلاناً: کو منع کرنا، روکنا۔ کہتے ہیں: ماشَجَرَكَ عن كذا: یعنی تمہیں کس چیز نے ایسا کرنے سے روکا۔ إشْتَجَرَ نومُهُ: نیند کا دور ہونا۔ إنْشَجَرَ نومُهُ: نیند کا دور ہونا۔ الشَوَاجِر: مشاغل وموانع۔ الشَجِير: اجنبی اونٹ یا آدمی۔

۵۔ شَجَرَ ـ شَجْراً فَمَهُ: کا لکڑی سے منہ کھولنا۔۔۔ الدابةَ: جانور کو ٹھہرانے کیلئے لگام کو زور سے مارنا کہ وہ منہ کھول دے۔ الشَجْر جمع أشْجَار و شُجُور و شِجار منہ کا وہ حصہ جو بند کرتے وقت ظاہر ہو۔ الحروف الشَجْرية ش، ض اور ج یا ش، ج، ق، ک اور ی۔ الشِجَار جمع شُجُر: وہ لکڑی جو بکری کے بچہ کے منہ میں لگائی جاتی ہے تا کہ وہ دودھ نہ پی سکے۔

۶۔ إشْتَجَرَ الرجلُ: آگے بڑھنا، جلد خلاصی پانا۔ إنشجر: جلد خلاصی پانا، نجات پانا۔

۷۔ الشِجَار ج شُجُر: اونٹ کا داغ۔ الشَجِير: تلوار، بُرا ساتھی۔

○ شَجَرَ ـ شَجْراً: ہونا، واقع ہونا، وقوع میں آنا، رونما ہونا، (عام بے چینی، گڑبڑ) کا اچانک پھیلنا، بڑھنا۔ شَاجَرَهُ/مع: کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا، بحث کرنا۔ تَشَاجَرَ: ایک دوسرے سے جھگڑنا، لڑنا، بحث کرنا۔۔۔ مع: سے جھگڑنا، بحث کرنا لڑنا۔ شَجَر: اسم جنس واحد شجرة جمع اشجار: درخت، چھوٹی جھاڑیاں، جھاڑیاں۔ شَجَرة جمع شَجَرات: درخت، چھوٹی جھاڑی، جھاڑی۔ شَجِر: لکڑی کا، درختوں سے بھرا ہوا، جنگل پوش، جنگل والا، بنوں والا۔ شَجِير جمع شُجَراء: بُرا ساتھی، برا ساتھ۔ شُجَيْرَة جمع شُجَيرات: چھوٹی جھاڑی، جھاڑی۔ شِجار: چوبی بلی، چٹخنی، کھٹکا۔ اشْجَر م شَجْراء: لکڑی کا، درختوں سے بھرا ہوا، جنگل پوش۔ تَشْجِير: شجرکاری، جنگل بنانا، بن بنانا (afforestation)۔ شِجار: لڑائی، جھگڑا، بحث مباحثہ۔ مُشَاجَرہ: لڑائی، جھگڑا، بحث۔ مُشَجَّر: پودوں کی شکلوں والا اور شاخ دار (کپڑا)۔ مُشْجِر: جنگل پوش، بہت درختوں والا۔

شجع: ا۔ شَجُعَ ـ شَجَاعَةً: بہادر شجاع نڈر ہونا۔ ۔ شَجَعَاهُ پر بہادری میں غالب ہونا۔ شَجَّعَهُ: کو قوی دل بنانا۔۔۔ هُ على الأمر: کو پر جرأت دلانا۔ شَاجَعَهُ: سے دلیری میں مقابلہ کرنا۔ تَشَجَّعَ: بہادر بننا، بہادری کا اظہار کرنا۔ الشُجَاع و الشَجَاع و الشِجَاع جمع شُجْعان و شِجْعان و شِجَاع و شُجَعَاء و شُجْعَة و شِجْعَة و شَجَعَة: دلیر، بہادر، جرأت والا، بڑے دل گردہ والا۔ الأشْجَع م شَجْعَاء جمع شُجْع: اسم تفضیل: (سے) زیادہ بہادر، سب سے زیادہ بہادر، بہادر ترین، بہادر، شیر، پیش پیش رہنے والا اونٹ۔ الشَجِع: بہادر۔ الشَجِيع ج شُجْعَان و شِجَاع و شُجَعَاء و أشْجِعَة م شَجِيعَة ج شَجَائِع و شِجَاع و شُجُع: بہادر، دلیر، نڈر۔ الشَجَاعَة (مص): جرأت، دلیری، منچلاپن خوف کے وقت دل کی مضبوطی۔

۲۔ شَجِعَ ـ شَجَعًا: لمبا ہونا۔ صفت: أشْجَع م شَجْعَاء۔ رَجُلٌ شَجْعَةٌ و شُجَعَة: لمبا، بے ڈول آدمی۔ الأشْجَع: لمبا۔ الشَجِع: پاگل اونٹ۔ جملٌ شجع القوائم: جلد جلد قدم اٹھانے والا اونٹ۔

۳۔ الشُجَع (ز): درخت کی جڑیں۔ رَجُلٌ شَجْعَةٌ و شُجَعَة: عاجز، بزدل۔ الشُجَاع و الشِجَاع جمع شُجْعان و شِجْعَان و أشْجِعَة (ح): ایک قسم کا سانپ، الأشجع: ایک قسم کا سانپ، زمانہ۔۔۔ والإشْجَع (ع ا): الاشاجع کا واحد، انگلیوں کی جڑ یا ہتھیلی کی پشت کی رگ۔ المُشْجَع: بہت ہی پاگل۔

○ شَجُعَ ـ شَجَاعَةً: باہمت، دلاور، جرأت مند، بہادر، نڈر، بے خوف، منچلا، جواں مرد، شجاع ہونا۔ شَجَّعَهُ على: کو کی جرأت دلانا، کی ہمت بڑھانا، کا جی بڑھانا (کچھ کرنے پر) کی ہمت افزائی کرنا (کچھ کرنے پر)۔۔۔ ہ، ہ: کی مدد کرنا، تائید کرنا، پشت پناہی کرنا، کو ترقی دینا، کے لئے کام کرنا، کو تقویت پہنچانا، بڑھانا، فروغ دینا۔ تَشَجَّع: کمر ہمت باندھنا، ڈر دور کرنا، اپنے آپ کو نڈر ظاہر کرنا، جرأت مند ہونا۔ شُجَاع: ہیرو۔ شجاعة: جسارت۔ اشجع: نڈر۔ مُشَجِّع: ہمت بڑھانے والا، (کے لئے) کام کرنے والا، تقویت پہنچانے والا، حامی، مددگار، مؤید۔

شجم: الشَجَم: ہلاکت۔ الشُجُم: ہلاکتیں، مصائب۔ لمبی اور بڑی مصیبتیں۔

شجن: ا۔ شَجَنَ ـ شَجْنًا و شُجُونًا: غمگین ہونا صفت: شَاجِن۔ شَجَنَ ـ شَجْنًا و شُجُونًا هُ: کو غمگین کرنا۔ شُجُونات الحمامة: فاختہ کا دردبھری آواز نکالنا۔ شَجَّنَ هُ: کو غمگین کرنا۔ أشْجَنَ هُ: کو غمگین کرنا۔ تَشَجَّنَ: غمگین ہونا۔۔۔ الأمرَ: معاملہ کو یاد کرنا۔ الشَجَن (مص) ج شُجُون و أشْجَان: غم، اندوہ، خواہش نفس۔

۲۔ أشْجَنَ الكرمُ: انگور کی بیل کا الجھا ہوا اور گنجان ہونا۔ تَشَجَّنَ الشجرُ: درخت کا گنجان اور گھنا ہونا۔ الشَجْن جمع شُجُون و الشَاجِنَة ج شَوَاجِن: وادی کا راستہ یا اس کا بالائی حصہ۔ الشَجَن ج شُجُون و أشْجَان و الشَجْنَة و الشِجْنَة و الشُجْنَة ج شِجَن و شُجَن و شِجْنات و شُجُنات و شَجَنات: الجھی ہوئی پیچیدہ ٹہنی ہر چیز کی شاخ۔ کہتے ہیں: الحديثُ ذو شُجُون: بات میں بات نکلتی ہے۔

۳۔ تَشَجَّنَ: حرکت کرنا۔

۴۔ الشِجْنَة ج شِجَن و شُجَن و شِجْنات و شُجُنات و شُجَنات: پہاڑ کی دراڑ، شگاف۔

شجا: ا۔ شَجَا ـ شَجْوًا و أشْجَى إشْجَاءً الرجُلَ: کو غمگین کرنا، خوش کرنا (ضد) اُکسانا، کا گلا گھونٹنا (ضد)۔ شَجِيَ ـ شَجًا: غمگین ہونا۔۔۔ بالشجا: حلق میں ہڈی اٹک جانے سے گلا گھٹنا۔ عَلَيكَ بالكظمِ و إن شَجِيتَ بالعظم: ضبط وتحمل سے کام لے اگرچہ تیرے حلق میں ہڈی اٹک گئی ہو۔ تَشَاجَى: غم کا اظہار کرنا۔ الشجا: غم، رنج اندوہ: حلق میں پھنسی ہوئی ہڈی وغیرہ، گلے کی پھانس۔ الشَجْو (مص): غم، رنج، گریہ وزاری کا ایک دور کہتے ہیں: بكى فلان شَجْوَهُ و بكت الحمامةُ شَجْوَها: فلاں کچھ دیر رویا، فاختہ نے کچھ دیر دردبھری آواز نکالی۔ مفازةٌ شجواء: دشوار گزار بیابان۔ الشَجِي و الشَجِيّ م شَجِيَة و شَجِيَّة: غمگین، فکرمند نسبت شَجَوِيّ: ضرب المثل ہے: ويل للشجي من الخلي و يا ويلَ الشجي من الخلي: یہ اس وقت کہتے ہیں جب آدمی کا ساتھی برا ہو۔ جسے کوئی غم نہ ہو وہ غمگین شخص کی مصیبت میں کوئی مدد نہیں کرتا بلکہ اسے ملامت کرتا ہے۔

۲۔ شَجِيَ ـ شَجًا الغريمُ عنه: سے قرض خواہ کا چلا جانا۔ أشْجَى الغريمَ او السائلَ: قرضخواہ یا سائل کو حسب منشا دے دینا۔ الشَجْو: حاجت، ضرورت۔ کہتے ہیں له عندي شَجْوٌ: اسے مجھ سے ضرورت ہے۔

شجا: تاثر، احساس، جذبہ، رقت انگیزی، دلگداز کیفیت۔ شَجِی: غمگین، رنجیدہ، پریشان، افسردہ، مغموم، مصیبت میں مبتلا، تشویش مند، خوفناک، ڈراؤنا، دل ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، رقت انگیز۔ مُشَجٍّ: جذبات ابھارنے والا، رقت انگیز، دل گداز، دردناک۔

شح: ۱- شَحَّ ـُ شَحًّا و شِحًّا و شُحًّا بالشیء و علی الشیء: میں بخل کرنا، کالالچ کرنا، کی حرص کرنا۔ عوام کہتے ہیں: شحّ ماءُ الینبوع او ماء النهر: چشمے یا دریا کا پانی کم ہو گیا اور موسم خزاں میں پانی کی کمی کے دنوں کو ایام الشحائح کہتے ہیں۔ شاحّ بالشیء علی فلان: کسی سے کسی چیز پر بخل کرنا۔ تشاحّ القوم علی الامر و فیه: کسی چیز کے بارے میں آپس میں بخل کرنا۔ الشُّحّ (مص): بخیل۔ الشَّحاح: کنجوس، حریص، لالچی۔ ـ من الارض: وہ زمین جو بغیر زیادہ بارش کے پانی نہ بہائے۔ زندٌ شَحاحٌ: آگ نہ دینے والی چقماق۔ ماءٌ شَحاح: تھوڑا پانی۔ الشحیح ج شِحاح و اَشِحّة و اَشِحّاء م شحیحة ج شحائح: کنجوس، بخیل، حریص، لالچی۔ اِبلٌ شحائح: کم دودھ والی اونٹنیاں۔

۲- شاحّ مشاحّةً ہُ: سے جھگڑا کرنا، سے سختی کرنا۔ کہتے ہیں: لا مشاحّة فی الامر: یعنی یہ صاف اور کھلا معاملہ ہے اس میں کوئی جھگڑا ممکن نہیں۔ تشاحّ الخصمان فی الجدل: دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کا غالب ہونے کا ارادہ کرنا۔ ـ علی الشیء: ہر ایک کا کوئی چیز حاصل کرنے کی خواہش کرنا۔

۳- شَحشَحَ البعیرُ: اونٹ کا آواز کو پھیرانا۔ ـ الصُّرَدُ: ممولے کا آواز نکالنا۔ ـ الطائرُ: پرندہ کا جلدی سے اڑ جانا۔ ـ منه: سے ڈرنا۔ الشَّحشَح: وسیع بیابان، بہادر آدمی، غیرت مند، خوش بیان، بکھیرار۔ ـــ و الشَّحشاح: بخیل، بے خیر، بدخلق، کوئی کام ہمیشہ کرنے والا۔ الشَّحشَحان: بخیل، غیرت مند، لمبا۔ المُشَحشَح و المُشَحشِح: بے خیر شخص، بے فیض آدمی۔

شَحَّ ـَ: کنجوس، بخیل، لالچی، حریص، طامع ہونا یا ہو جانا۔ ـــ ب/علی: میں کنجوسی کرنا، کو کم خرچ کرنا، میں کفایت سے کام لینا۔ (علی): کے بارے میں۔ ـ ب علی: کالالچی، حریص ہونا۔ ـ: کم پڑ جانا، کم ہو جانا، سمٹنا، گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ جانا۔ شاحّ ب علی: سے بچھوڑ لینا، روک رکھنا۔ الایام الشحائح: وہ دن جن میں بارش نہ ہو، خشک موسم۔ لامَشاحّة فی ذلك: یہ ناقابل تردید ہے۔ لامشاحّة أن: یہ بات ناقابل تردید ہے کہ......، یقیناً، حتمی طور پر۔

شحب: شَحَبَ ـَ و شَحُبَ ـُ و شَحِبَ شُحُوبةً و شُحُوبًا لونُهُ: بھوک یا بیماری وغیرہ سے چہرہ کا رنگ بدلنا۔ الشاحب (فا): لاغر و دبلا پتلا متغیر رنگ والا۔ شاحبُ اللون: متغیر رنگ والا۔ شاحبُ الجسم: لاغر اور دبلے جسم والا۔

شَحَبَ ـُ شُحُوبًا و شَحُبَ ـُ شُحُوبةً و شُحبَ: پیلا، زرد، کمزور، نقیہ، دبلا، لاغر، بے چربی والا، اترے ہوئے منہ والا ہونا یا ہو جانا، بیمار دکھائی دینا، کمزور سا، بیماروں سا نظر آنا۔ شُحوب: پیلا پن، چہرے کی زردی، چہرے کی بے رونقی، لاغری، دبلا پن۔ شاحِب: پیلا، زرد، کمزور، نقیہ، دبلا، بیمار، کمزور سا، اترے ہوئے چہرے والا، بے رونق، مدھم (روشنی)، پھیکا، ہلکا، صوفیانہ، زرد (رنگ)۔

شحت: شَحَتَ ـَ شَحْتًا المُدْیةَ: چھری تیز کرنا۔

شَحَتَ (= ثحذ): بھیک مانگنا۔ شَحّات: بھکاری۔ شحات العین: گوہانجنی (sty)۔

شحج: شَحَجَ ـِ شَحِیجًا و شُحاجًا و شَحَجانًا و تَشحاجًا و تَشَحَّجَ البغلُ او الغرابُ: خچر کا ہنہنانا، کوے کا کائیں کائیں کرنا یا اس کی آواز کا بھاری ہونا۔ شُحاجُ و شَحِیجُ البغل او الغراب: خچر کی ہنہناہٹ، کوے کی کائیں کائیں۔ الشَّحّاج و الشاحِج (ح): جنگلی گدھا۔ بنات شَحّاج و بنات شاحِج: خچریں۔ الشواحِج (ح): کوے۔ المِشحَج: جنگلی گدھا، گورخر۔

شحذ: ۱- شَحَذَ ـَ شَحذًا السکینَ و نحوه: چھری وغیرہ تیز کرنا۔ شَحُوذ و شَحِیذ: تیز کی ہوئی چھری وغیرہ۔ ـ الجوعُ معدتَهُ: سخت بھوک لگنا۔ ـ ہُ ببصرِہ: کو گھورنا۔ ـ الشیءَ: کو چھیلنا۔ ـــ فی التسول: مانگنے میں بہت اصرار کرنا۔ کہتے ہیں: هو یشحذ الناس: وہ لوگوں سے لجاجت سے مانگتا ہے۔ ـ الدابةَ: جانور کو سختی سے ہانکنا۔ ـ ہُ: کو ہٹانا، دور کرنا۔ شاحَذَہُ: سے تلوار وغیرہ تیز کرنے میں مقابلہ کرنا، سے مراسلت کرنا۔ اَشحَذَ السکینَ: چھری تیز کرنا۔ تَشَحَّذَہُ: کو ہٹانا، دور کرنا۔ ـ الرجلُ: مانگنے میں لجاجت اختیار کرنا۔ الشَّحّاذ ج شَحّاذة و شَحّاذون: بھکاری، گداگر، سوالی۔ الشِّحاذة: گداگری کا پیشہ۔ الشَّحذان و الشَّحَذان: بھوکا، ہانکنے والا، ہلکا چلنے والا۔ رجلٌ شُحذُوذٌ: تیز اور غصہ کے وقت طیش میں آنے والا۔ المِشحَذ: چھری چاقو تیز کرنے کی سان، تیز ہانکنے والا۔ المِشحاذ ج مَشاحِیذ: ٹیلہ، پہاڑ کی چوٹی۔ المَشحَذة: تیز کرنے کا نوکدار ذریعہ۔ کہتے ہیں: هذا الکلام مَشحَذةٌ للفهم: یہ کلام فہم کو تیز کرنے والا ہے۔

۲- الشَّحّاذ (طب): گوہانجنی۔

شحر: ۱- شَحَرَ ـَ شَحرًا: منہ کھولنا۔

۲- الشَّحر (مص): پانی بہنے کی جگہ، وادی کا درمیان۔ ـــ و الشِّحر: کنارہ، ساحل۔ شَحرُ و شِحرُ عمان: عمان و عدن کے مابین ساحل سمندر۔ الشُّحرة: تنگ ساحل۔ الشَّحّار عند العامة: آتش فشانی یا ریتلی زمین، کالک، اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں۔ شَحَرہ فتشحّر: اس نے اس پر کالک ملی تو وہ اس سے لتھڑ گیا اس سے اسم شحتو ہے (سریانی) الشحرور ج شحاریر: نیز اسے الشُّحرور بھی کہتے ہیں: ترغم (پرندہ)۔ المَشحَرة: کوئلے بنانے کا گودام۔

شَحَّرَ ہُ: کو کالک سے سیاہ کرنا۔ مَشحَر: لکڑی کے کوئلہ کی بھٹی یا گودام۔ مَشحَری: لکڑی کے کوئلہ کا برنر۔ مُشَحَّر: دھوئیں سے کالا، کالا سا۔

شحز: شَحَزَ ـَ شَحزًا: گھبرانا، خوفزدہ ہونا۔

شحص: اَشحَصَ ہُ: کو تھکا دینا۔ ـ ہُ من المکان و شَحَّصَهُ عنه: کو کسی جگہ سے دور کرنا، بیدخل کرنا، جلاوطن کرنا۔

شحط: ۱- شَحَطَ ـَ شَحطًا و شَحَطًا و شُحُوطًا و مَشحَطًا الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ ـ اللبنَ: دودھ کا پانی بڑھانا، زیادہ کرنا۔

شحط: ۱- شَحَطَ ـَ شَحطًا و شَحَطًا و شُحُوطًا و مَشحَطًا فلانًا: سے آگے بڑھنا اور دور ہونا۔ ـ ہُ عند العامة: کو ہٹانا، دور کرنا۔ ـ المکانُ: جگہ کا دور ہونا۔ شَحَطَ ـَ شَحطًا المکانُ: جگہ کا دور ہونا۔ اَشحَطَ ہُ: کو دور کرنا۔ الشَّحط و المِشحَط: وہ لکڑی جس پر انگور کی بیل زمین سے اٹھا کر لٹکائی جائے۔ عوام اسے "مسوک" کہتے ہیں۔ منزلٌ شاحِطٌ: دور کی منزل۔ الشِّحاط: دور۔ شواحِطُ الاودیة: دور کی وادیاں۔ الشَّوحَطة: لمبی گھوڑی۔

۳- شَحَطَ ـَ شَحطًا و شَحَطًا و شُحُوطًا و مَشحَطًا تِ العقربُ الرجلَ: بچھو کا آدمی کو ڈنک مارنا، ڈسنا۔ ـ الجملَ: اونٹ کو ذبح کرنا۔ شَحط ـ شَحطًا الجملَ: اونٹ کو ذبح کرنا۔ شُحط

بـالدم: خون میں تھڑنا، آلودہ ہونا۔ شَحَّطَ ہُ: کو خون سے لتھیرنا، آلودہ کرنا۔ تَشَحَّطَ بالدمِ: خون میں لتھڑنا، خون آلود ہونا۔ الشَحْط (مص): خون وغیرہ سے آلودگی۔

۴۔ شَحَطَ ۔ شَحْطاً ہُ علی الارض: کو زمین پر گھسنا (سریانی)۔ ۔۔۔ عودَ الثقاب: ماچس کی تیلی جلانا۔ الشَحْطَة و الشُحَيْطَة: ماچس کی تیلی، دیا سلائی۔ الشَحَّاطَة: گھروں میں پہنی جانے والی جوتی۔ (عام لوگوں کی زبان میں)۔

۵۔ شَحَطَ ۔ شَحْطاً و شَحَطاً و شُحُوطاً و مَشْحَطاً الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ الشَحْط: پرندے کی بیٹ۔

۶۔ الشاحُوطَة (ب): نہانی۔ ۔۔۔ عند العامة: نزع کے وقت تیز تیز سانس کی غرانوں کے ساتھ۔

۞ شحط ۔ شحطاً: دور ہونا۔ ۔ ہ: دیا سلائی جلانا: ۔۔۔ جہاز کا ساحل پر چڑھ جانا، ریتلے کنارہ سے جالگنا۔ شَحَّط: جہاز کا ساحل پر چڑھ جانا، ریتلے کنارہ سے جالگنا۔ ۔ ہ: جہاز کو ریتلے ساحل سے لگا دینا، یا اس پر چڑھا دینا۔ شَحْطة جمع شَحَطات: (وردی پر) فیتی، ڈوری۔ شَحَّاطَة جمع شحاطات: ماچس۔ شحیطة: ماچس۔ شاحِط: دور، بعید، دور افتادہ، ساحل پر چڑھا ہوا۔

شحك: شَحَكَ ۔ شَحْكاً الجدیَ: بکری کے بچے کے منہ میں تھوتھنی لگانا۔ الشِحَاك: تھوتھنی۔

شحل: شَحَّلَ الکرمَ: انگور کی بیل کی شاخوں کو تراشنا۔ اسے فصیح زبان میں قضَب کہتے ہیں۔

شحم ا۔ شَحَمَ ۔ شَحْماً ہُ: کو چربی کھلانا۔ شَحُمَ ۔ شَحَامَةً: بہت چربی دار ہونا، موٹا ہونا صفت: شَحِم۔ شَحِمَ ۔ شَحَماً: چربی کی خواہش کرنا صفت: شَحِم ۔۔۔ ۔ شُحُومَاتِ الناقةُ: اونٹنی کا لاغری کے بعد موٹا ہو جانا۔ شَحَّمَ القومَ: لوگوں کو چربی کھلانا۔ اَشْحَمَ: بہت چربی والا ہونا۔ ۔۔۔ القومَ: کو چربی کھلانا۔ الشَحْم: جس کے ایک ٹکڑے کو شَحْمة کہا جاتا ہے۔ ج شُحُوم: چربی۔ الشاحِم: چربی فروش۔ رجُلٌ شاحِمٌ لاحِمٌ: چربی اور گوشت سے بھرا ہوا آدمی یا چربی اور گوشت بہت کھلانے والا۔ الشَحَّام: چربی فروش، لوگوں کو بہت چربی کھلانے والا۔ الشَحْمَة: چربی کا ٹکڑا۔ شَحْمَةُ الارض: سانپ کی چھتری۔ ۔۔۔ العین: آنکھ کا ڈھیلا۔ ۔۔۔ الاُذُن (ع ا): کان کی لو۔ ۔۔۔ الرُمّان: انار کے اندر دانوں کے بیچ میں باریک

چھلکا۔ ۔۔۔ المرْج: ایک بوٹی جو دوائی کے طور پر کام آتی ہے۔ ضرب المثل ہے: ما کل بیضاء شحمة ولا کل سوداء تمرة: جس کا یہ مفہوم ہے کہ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔ الشَحِم: تھوڑے رس والا انگور۔ الشَحَم: بے جا غرور، جھوٹی شان، اکڑ، اکڑ فوں، ہیکڑی، خود پسندی، تکبر۔ الشَحِيم: فربہ، موٹا۔ المُشَحَّم و المُشْحِم: اپنے گھر میں بہت چربی رکھنے والا، بہت گری والا پھل (عام زبان میں)۔ المُشَحَّم و المَشْحُوم: چربی سے بنائی ہوئی چیز، چربی سے تیار کردہ شے۔

۲۔ الشَحِيم و الشَحِيمَة: موارنہ و سریانیوں کی نمازوں کی کتاب۔

۞ شَحُمَ ۔ شَحَامَةً: چربی دار ہونا یا بن جانا۔ شَحَّمَ ہ: کو گریس لگانا، کو تیل دینا۔ شَحْم جمع شُحُوم و شحومات: مشین کا تیل، گریس، چربی، (پھل کا) گودا۔ شَحْمِي: چربی دار۔ شَحِم: گودادار پلپلا (پھل)۔ مِشْحَمَة جمع مَشَاحِم: گریس کا ڈبہ۔ تشحیم: تیل دینا، گریس لگانا، oiling (of اور lubrication greasing machine)۔ زیوت التشحیم: مشین کے تیل lubricants۔ مُشَحَّم: چربی، چربی دار، گریس دار۔ مُشْحِم: گودادار، پتلے گودے کا، پلپلا (پھل)۔

شحن: ا۔ شَحَنَ ۔ شَحْناً السفینةَ: کشتی بھرنا، پُر کرنا۔ ۔۔۔ المدینة بالخیل: شہر کو گھوڑوں سے بھرنا۔ اَشْحَنَ المکانَ: جگہ بھرنا۔ الشَحْن (مص): (عند البحریة و شرکات سکك الحدید و اصحاب السیّارات الکبیرة): سامان جو کشتیوں، جہازوں، ریل کے ڈبوں یا ٹرکوں میں بار کیا جاتا ہے۔ سَيّارةُ الشَحْن: ٹرک۔ الشِحْنَة جمع شِحَن: بار جہاز، جہاز کی کھیپ، جہاز وغیرہ سے جانے والا مال، بندھے ہوئے گھوڑے۔ (کہتے ہیں: بالبلد شِحْنَةٌ من الخیل شہر میں بندھے ہوئے گھوڑے ہیں)۔ جانوروں کے لئے ایک دن رات کا چارہ یا رسد۔ شِحْنَةُ البلد: پولس۔ مرکبٌ شاحِنٌ: سامان سے لدا ہوا جہاز یا کشتی۔ الشاحِنة جمع شاحِنات: مال گاڑی کا ڈبہ، ریل گاڑی کا ایک ڈبہ جس میں مسافر بیٹھتے ہیں۔ اسے حافلة بھی کہتے ہیں۔

۲۔ شَحَنَ ۔ شَحْناً الرجلَ: کو دھتکارنا، نکالنا، دور کرنا۔ ۔۔۔ و شَحَنَ شَحْناً

الکلابُ: کتوں کا شکار کے پیچھے دور تک نکل جانا مگر شکار نہ کرنا۔

۳۔ شَحِنَ ۔ شَحَناً علیه: سے کینہ رکھنا۔ شاحَنَ ہُ: سے بغض و عداوت رکھنا۔ تَشَاحَنُوا: آپس میں بغض و کینہ رکھنا، ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھنا۔ الشَحْناء: دشمنی، کینہ، بغض۔ الشِحْنَة ج شِحَن: دشمنی۔ عدوٌّ مُشاحِن (فا): سخت دشمنی اور بغض رکھنے والا دشمن۔

۴۔ اَشْحَنَ السیفَ: تلوار کو میان میں ڈالنا، سونتنا (ضد)۔ ۔۔۔ له بسهم: کو تیر مارنے کے لئے تیار ہونا۔ ۔۔۔ الصبيُّ: بچہ کا رونے کے لئے تیار ہونا۔

۞ شَحَنَ ۔ شَحْناً ہ ب: کو سے بھرنا۔ ہ ب: جہاز وغیرہ پر مال لادنا، جہاز میں مال بھرنا، لادنا۔ ۔۔۔ ہ: (سامان) لادنا، کو (جہاز وغیرہ کے ذریعے) بھیجنا، بذریعہ (جہاز ریل وغیرہ) ارسال کرنا۔ ۔۔۔ ہ ب: کو سے لادنا۔ ۔۔۔ ہ: کو ہانکنا، ہانک کر لیجانا، لیجانا، کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا، رگیدنا، کھدیڑنا، کو دھکیلنا، دور کرنا۔ شَاحَنَ ہُ: سے نفرت کرنا، سے جھگڑنا، بحث کرنا، لڑنا۔ اَشْحَنَ ہ ب کو سے بھرنا، پر کچھ لادنا، کو کے ذریعے بھیجنا۔ تشاحن: ایک دوسرے سے نفرت کرنا، جھگڑنا، باہم منافرت کرنا۔ شَحْن: لادنا، بھیجنا، (بذریعہ ریل جہاز وغیرہ)۔ جہاز کے ذریعے بھیجا ہوا مال، جہاز کی کھیپ، بار جہاز، جہاز وغیرہ کے ذریعے جانے والا مال، جہاز میں لدنے والا مال (lading)، بوجھ، بار، لادنا، لیجایا ہوا مال۔ بُولِيصَةُ الشحن: جہاز میں لدنے والے مال کی فہرست۔ سيّارة الشحن: ٹرک، لاری۔ شَحْنَة جمع شَحَنات: جہاز وغیرہ کے ذریعہ جانے والا مال۔ شِحْنه: پولس، پولس فورس۔ شَحْناء: بغض، کینہ، نفرت، دشمنی، عداوت۔ مُشَاحَنَة جمع مُشاحنات: بغض، کینہ، نفرت، عداوت، دشمنی، جھگڑا، باہمی منافرت، نزاع۔ شَاحِن: لدا ہوا۔ شاحِن المُرَكِم: بیٹری چارجر۔ شَاحِنة جمع شاحِنات: ٹرک، لاری۔ مَشْحُون: لدا ہوا (خصوصاً جہاز) چارج شدہ (برق)۔ مشحونات: جہاز وغیرہ میں لدا ہوا مال، جہاز کے ذریعہ لیجایا جانے والا یا جانے والا مال۔

شحا: شَحَا ۔ شَحْواً الرجلُ: منہ کھولنا، قدموں کو دور دور رکھنا۔ ۔۔۔ اللجامُ فمَ الفرسِ: لگام کا گھوڑے کے منہ کو کھولنا۔ ۔۔۔ الفمُ: منہ کھلنا۔ اَشْحَی فاہُ: کا منہ کھولنا۔ شَحَّی تَشْحِيَةً فوہُ: منہ کھلنا۔

شَخّی علیه: کے بارے میں زبان درازی کرنا۔
شَخا: ہر وسیع و کشادہ شے۔ الشَّخو: اندر۔
شَخوَة: اسم مرة، قدم۔ کہتے ہیں: فرسٌ بعیدُ
الشحوة: دور دور قدم رکھنے والا گھوڑا۔ رجل بعید
الشحوة فی مقاصده: اپنے ارادوں میں عالی حوصلہ
آدمی۔ الشَّخواء: چوڑا کنواں۔
ن: شَخِيَ يَشخی شَخًيا: بمعنی شحا۔
شخ: ا۔ شَخّ ـ شَخًّا: پیشاب کرنا۔ ــ فی النوم:
نیند میں خراٹے لینا۔ ــ اللبنُ: دوہنے کے وقت دودھ
سے آواز نکالنا۔
۲۔ شَخشَخَ ببَوله: پیشاب کی دھار کو دور پھینکنا۔ صفت:
شَخشاخ۔ ــ ت الناقةُ: اونٹنی کا بیٹھے بیٹھے سینہ
ابھارنا۔ الشَّخشخة (مص): ہتھیاروں کی جھنکار،
کاغذ یا نئے کپڑے اور ہر خشک چیز کی آواز۔
○ شَخّ ـ شَخًّا: پیشاب کرنا۔ شَخّ: پیشاب۔
شَخاخ: پیشاب۔ مَشخّخة: عوامی پیشاب
خانہ public lavatory۔
شخب: ا۔ شَخَبَ ـُ ـِ شَخْبًا و مُشخَبًا اللبنَ:
دودھ دوہنا۔ ــ اللبنُ: دودھ کا بہنا۔ ــ ت اوداجُ
القتیل دماً: مقتول کی رگوں کا خون بہنا۔ اِنشَخَبَ:
دوہا جانا۔ الشَّخب (مص): خون۔ ــ و الشُّخب:
دوہتے وقت دودھ کی دھار۔ الشُّخبة جمع شِخاب:
دودھ کی دھار۔ الشِّخاب: دوہتے وقت کا دودھ۔
الأُشخوب ج أشاخیب: تھنوں سے دودھ نکلنے کی
آواز۔ وَدَجٌ شَخیب: خون بہانے والی گردن کی
کٹی ہوئی رگ۔
۲۔ الشِّنخاب و الشُّنخوب و الشُّنخوبة جمع
شَناخیب: پہاڑ کی چوٹی۔
○ شَخَبَ ـ شَخْبًا: بہنا، زور سے نکلنا، پھوٹ نکلنا۔
شخت: ا۔ شَخُتَ ـ شُخُوتةً: چھریرے بدن والا
ہونا صفت: شَخْت و شَخَت جمع شِخات: کہتے
ہیں: ہو شَختُ العطاء: وہ کم داد و دہش والا ہے۔
ہو شختُ الخُلق: وہ کمینہ خصلت ہے۔ شَخَّتَ
ہُ الیه: کو تک پہنچانا۔ الشَّخت و الشِّخّیت و
الشَّخیت و الشُّختیت: بلند غبار۔
۲۔ الشَّختور و الشَّختورة: چھوٹی کشتی، ڈونگا (کہا
جاتا ہے اس کی اصل انگریزی لفظ ہے)۔
○ شَخبَطَ: (لکھنے میں) گھسیٹنا، شکستہ لکھنا، جلدی جلدی
گھسیٹنا۔ شَختور و شَختورة جمع شَخاتیر:
بجرا، بلی سے کھینچے والی سیدھی ناؤ (punt)، چپٹے
پیندے کی چوبی کشتی۔

شخر: ا۔ شَخَرَ ـ شَخیرًا: حلق یا ناک سے آواز
نکالنا۔ ــ شَخیرًا و شَخرًا الفرسُ او الحمارُ:
گھوڑے کا ہنہنانا، گدھے کا ڈھینچو ڈھینچو کرنا۔
الشَّخیر: حلق یا ناک سے نکلنے والی آواز۔ الشِّخّیر:
بہت خراٹے لینے والا۔
۲۔ شَخَرَ الحِلسَ: کجاوہ باندھنے کیلئے جانور کی پیٹھ سے
ٹاٹ اٹھانا۔ ــ النخلةَ: ٹوٹنے کے خوف سے کھجور
کے خوشہ کو ٹہنی پر رکھنا۔ الشَّخرُ من الرَّحل: کجاوہ
کی درمیانی جگہ۔
۳۔ الشَّخر من الشباب: آغاز جوانی۔ الشخیر:
پہاڑی راستہ۔
○ شَخَرَ ـ شَخیرًا: خراٹے لینا، نتھنوں سے آواز نکالنا،
(گھوڑے کا) ہنہنانا (گدھے کا) رینگنا۔
شخز: شَخِزَ ـ شَخْزًا: بیقرار ہونا، مضطرب ہونا۔ ــ
علیه الامرُ: پر کوئی کام دشوار ہونا۔ ــہُ بالرمح: کو
نیزہ سے مارنا، کو نیزہ مارنا۔ ــ بینهم: کے درمیان
فساد ڈالنا، دشمنی برانگیختہ کرنا۔ تَشاخَزَ القومُ: آپس
میں بغض و عناد رکھنا۔ الشَّخز (مص): مشقت کی
سختی۔
شخس: ا۔ شَخَسَ ـ شَخسًا الرجلُ: مضطرب
ہونا۔ شاخَسَ امرُ القوم: مختلف ہونا۔ تشاخَسَ
امرُهم: معاملہ بگڑنا، معاملہ میں اختلاف ہو جانا،
منقسم ہو جانا۔ ــ ت اسنانُهُ: بڑھاپے کے باعث
بعض دانتوں کا گر کر اونچے نیچے ہو کر بے ترتیب ہونا۔
الشخیس: حکم کے خلاف کرنے والا، امر متفرق۔
۲۔ شَخَسَ ـ شَخسًا الحمارُ: گدھے کا جمائی لیتے
ہوئے منہ کھولنا۔ شاخَسَ الحمار: گدھے کا لید
سونگھ کر سر اونچا کر کے منہ کھولنا۔ تَشاخَسَ الحمارُ:
بمعنی شَخَسَ یا شاخَسَ الحمار۔
۳۔ أَشخَسَ الرجلَ و به: کی غیبت کرنا۔ ــ له فی
المنطق: کے ساتھ گفتگو میں ترشروئی کرنا۔
شخص: ا۔ شَخَصَ ـ شُخوصًا الشیءُ: بلند
ہونا۔ ــ النجمُ: ستارہ کا طلوع ہونا۔ ــ الجرحُ:
زخم کا سوجنا۔ ــ بصرُهُ: ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ ــ
المیتُ بصرَهُ و ببصره: میت کی آنکھوں کا کھلا رہ
جانا۔ أَشخَصَ الرامی: تیر انداز کے تیر کا نشانہ
سے اوپر لگنا یا لگانا (لازم و متعدی)۔
۲۔ شَخَصَ ـ شُخوصًا عن قومه او من بلد إلی
بلد: چلے جانا، کوچ کر جانا۔ ــ الیهم: کے پاس
واپس آ جانا۔ شُخِصَ به: کسی امر کے پیش آنے
سے کسی کا بیقرار و بیکل ہونا، گھبرانا۔ اسی سے ہے:

شخوصُ المسافر: مسافر کا اپنی منزل سے نکل جانا۔
أشخص الرجلُ: کے جانے کا وقت قریب آنا۔ ــ
ہُ: کو بے آرام کرنا، بیقرار کرنا۔ ــ ہُ الی قومه: کو قوم
میں واپس کرنا، لوٹانا۔
۳۔ شَخُصَ ـ شَخاصةً: بدن کا بھاری ہونا، موٹا ہونا۔
شَخَّصَ الشیءَ: کو متعین کرنا، دوسری چیزوں سے
ممیز کرنا۔ اطباء کے نزدیک تشخیص امراض بھی اسی سے
ہے۔ ــ الراویةَ: تمثیل پیش کرنا (عام زبان میں)۔
تَشَخَّصَ: معین ہونا۔ ــ له: کو کسی شخص کی صورت
میں دکھائی دینا۔ تَشاخَصوا: آپس میں اختلاف
کرنا۔ الشخص ج أَشخُص و أَشخاص و
شُخوص: وجود جو دور سے دکھائی دے، انسان
(مذکر و مونث)۔ ــ عند المولّدین: پتھر وغیرہ
سے بنائی ہوئی مورتی۔ الشخیص م شَخیصة:
جسیم، سردار۔
۴۔ أَشخَصَ به: کی غیبت کرنا۔ ــ له فی المنطق و
أَشخَصَ الیه: سے گفتگو میں ترشروئی کرنا۔ الشخیص
من المنطق: ترشروئی سے گفتگو کرنے والا۔
○ شُخشیخة جمع شَخاشِخ: جھن جھن کرنے والا
کھلونا، جھنجھنا، کھلونہ، سقفی روشندان (skylight)۔
○ شَخَصَ ـ شُخوصًا: اٹھنا، بلند ہونا، طلوع ہونا
(ستارہ کا)، شخص لِ: کے سامنے آنا۔ ــ الی:
(آنکھ کا) کو گھورنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا؛ (نگاہ کا) پر جما
ہونا، گڑا ہونا۔ ــ (مرنے والے کی آنکھوں کا) پتھرا
جانا۔ ــ الی: کا کو ملنے کے لئے روانہ ہونا، کا کسی
جگہ کیلئے چل پڑنا، کو ملنے کے لئے سفر کرنا، کسی جگہ پہنچنے
کے لئے سفر کرنا۔ ــ من إلی: ایک حالت سے
دوسری حالت میں بدل جانا۔ شخص بصره یا
شخص ببصره الی: اپنی آنکھیں پر جمانا، گاڑنا،
آنکھیں پر گاڑ کر دیکھنا، کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنا، گھورنا۔
شَخَّصَ ہ: کی ایک شخص یا فرد کے طور پر نمائندگی
کرنا، کا مجسمہ ہونا، کو مجسم بنا کر پیش کرنا، کی صراحت
کرنا، تعیین کرنا، کی تفصیلات دینا۔ ــ ہ و ہ: کو
پہچاننا، شناخت کرنا، کی نشان دہی کرنا۔ ــ ہ: کا
کردار ادا کرنا، تمثیل پیش کرنا۔ ــ مرضاً: بیماری
کی تشخیص کرنا۔ أَشخَصَ ہ: کو بھیجنا۔ تَشَخَّصَ
ل: کے سامنے آنا، کے سامنے ظاہر ہونا، اپنے آپ کو
کسی کو دکھانا۔ شخص جمع اشخاص و شُخوص:
فرد، شخص، بدن، جسم، مشہور انسان، (کسی کھیل کا)
کردار، کوئی۔ شَخصی: ذاتی، نجی، کا اپنا، اپنی۔
شخصیاً؛ اصالةً: بذات خود قانونُ (او نظام)

الاحوال الشخصية: نجی حالات کا قانون۔
شخصية جمع شخصيات: انفرادیت، شخصیت، مخصوص طرز زندگی، خصوصیت، مخصوص شخصیت، ذاتی چھاپ، شناخت۔ شخصية اعتبارية: قانونی شخص۔ تحقيق الشخصية: ایک شخص کی شناخت۔
شهاده تحقيق الشخصية: شناختی کارڈ، قلم تحقيق الشخصية: شناختی محکمہ bureau of identification۔ شخصاني: ایکٹر، مزاحیہ اداکار۔ تشخيص: تجسم، تمثل، صحیح تعین، تقرر، تفصیل، تشریح شناخت، تشخیص (مرض) اداکاری (فنکار کا) کام، اداکاری۔ طبيب تشخيصي: مرض کی تشخیص کرنے والا الطبیب، ڈاکٹر۔ شاخص: جمی ہوئی گڑی ہوئی (نظر)۔ مُشَخِّص: ایکٹر، نمائندہ۔ مُشَخِّصَة جمع مشخصات: ایکٹریس، شخصیت۔ مُشَخِّصات: خصوصیات۔

شخل: شَخَلَ ـَ شَخْلاً الشراب: مشروب یا شراب صاف کرنا۔ ـــ الناقةَ: اونٹنی کو دوہنا۔ شَاخَلَهُ: سے سچی دوستی کرنا۔ الشَّخْل و الشَّخِيل: سچا دوست۔ المِشْخَل و المِشْخَلَة: چھلنی۔

○ شَخْلَلَ: چھنکنا، ٹن ٹن بجنا۔ ـــ ب: کو کھڑکھڑانا، کھنکھناتا۔ ـــ: نخرے کرنا، ناز و ادا کرنا۔

شخم: ۱۔ شَخِمَ ـَ و شَخَمَ ـُ شَخُمَ ـُ شُخُومًا و شَخَمًا الطعام او اللحمُ: کھانا (یا گوشت) خراب ہو جانا صفت: شَخِم۔ ـــ الفمُ: منہ کا بدبودار ہونا۔ شَخَّمَ الطعامَ: کھانا خراب کرنا۔ ـــ الطعامُ: کھانے کا خراب ہونا۔ ـــ الفمُ: منہ کا بدبودار ہونا۔ أَشْخَمَ الطعامُ او اللحمُ: کھانے یا گوشت کا خراب ہو جانا۔ ـــ الفمُ: منہ کا بدبودار ہونا۔ الشُّخْم: وہ لوگ جن کی ناک تیز خوشبو یا بدبو سے بند ہو گئی ہو۔
۲۔ أَشْخَمَ الرجلُ: کا رونے کے لئے تیار ہونا۔
۳۔ إِشْخَامَّ النبتُ: گیلی سوکھی گھاس کا آپس میں مل جانا۔
۴۔ روضٌ أَشْخَم: نباتات سے خالی باغ۔ عامٌ أَشْخَم: وہ خشک سال جس میں نہ پانی ہو نہ سبزہ۔ شعرٌ أَشْخَم: سفید بال۔

شَدَّ: ۱۔ شَدَّ ـُ شَدًّا عضدَه: کی مدد کرنا، کا ساتھ دینا۔ ـــ الشيءَ: چیز کو باندھنا، مضبوط کرنا۔ ـــ العقدةَ: گرہ کسنا، مضبوط کرنا۔ ـــ على يده: کی مدد کرنا، کو قوت پہنچانا۔ ـــ شِدَّةً: قوی ہونا۔ شَدَّدَهُ: کو قوت پہنچانا۔ ـــ الضربَ: بہت مارنا۔ ـــ عليه: پر تنگی ڈالنا۔ ـــ الحرفَ: حرف کو مشدد کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو مضبوط کرنا۔ شَادَّهُ في الأمر: پر کسی معاملہ میں غالب آنے کی کوشش کرنا، کا کسی معاملہ میں مقابلہ کرنا۔ أَشَدَّ: مضبوط جانور رکھنا، عقل یا عمر کی پختگی تک پہنچنا۔ تَشَدَّدَ: قوت والا ہونا، کسی کام میں سخت ہونا، بے لچک ہونا۔ تَشَادَّ الشيءُ: مضبوط ہونا۔ اِشْتَدَّ: قوت والا ہونا، قوی ہونا۔ ـــ عليه المرضُ: کی بیماری کا بڑھ جانا۔
الشَّدّ (مص): شَدُّ الرِّحَالِ: سفر کرنے کا کنایہ ہے۔ لا أملكُ شَدًّا و إرخاءً: میں کچھ نہیں کرسکتا، بے بس ہوں۔ لَشَدَّ ما جنيتَ عليَّ: میرے خلاف تمہارا جرم کتنا سخت ہے۔ الشَّدَّة: شد کا اسم مرہ۔ الشِّدَّة جمع شِدَد: اشتداد کا اسم، سختی، تنگی، مصیبت۔ شِدَّةُ الأرض: زمین کی سختی، کرختگی۔ الشُّدَّى: بمعنی شِدّہ۔ الشديد ج أَشِدَّاء و شِداد و شُدُود: قوی، مضبوط (کہتے ہیں: مِسكٌ شديدُ الرائحة: تیز خوشبو کا مشک)، مضبوط، کنجوس، بخیل۔ رجُلٌ شديدُ العين: وہ شخص جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ الشَّدِيدَة جمع شَدائِد: شدید کا مؤنث۔ الحروفُ الشديدة: وہ آٹھ حروف جو آپ کے اس قول میں جمع ہیں: اَجَدْتَ طَبَقَكَ۔ الأَشُدّ و الأُشُدّ: کہتے ہیں: بَلَغَ فلانٌ أَشُدَّهُ: وہ سن بلوغ کو پہنچا، وہ جوانی کی عمر کو پہنچا۔ سن بلوغ ۱۸ سے ۳۰ سال کی عمر۔
المِشَدّ: وہ کپڑے جسے عورت اپنی کمر پر باندھتی ہے۔ المُشِدّ: مضبوط چارپایوں والا۔ المُتَشَدِّد (فا): معاملات میں سخت، کنجوس۔
۲۔ شَدَّ ـِ شَدًّا الرجُلُ: دوڑنا۔ ـــ شَدًّا و شَدَّةً و شُدُودًا على العدو: دشمن پر حملہ کرنا۔ اِشْتَدَّ في السير: تیز دوڑنا۔ ـــ على قرنه في الحرب شَدَّةً: جنگ میں اپنے دشمن پر حملہ کرنا۔ الشَّدِيد جمع أَشِدَّاء و شِدَاد و شُدُود: بہادر (خ): شیر۔ الشَّدَّة: جنگ میں حملہ۔
۳۔ شَدَّ ـِ شَدًّا النهارُ: دن چڑھنا۔ شَدُّ النهار: دن چڑھنے کا وقت۔ کہتے ہیں: أتانا شَدَّ النهار و في شَدِّ النهار: وہ دن چڑھنے کے وقت ہمارے پاس آیا۔ الشَّدِيد ج أَشِدَّاء و شِدَاد و شُدُود: بلند۔ کہتے ہیں: هو شديدُ الخُنْزُوانة: وہ بہت متکبر اور خود پسند ہے۔
۴۔ الشَّدَّة عند العامة: جوتا، تاش کا پتہ۔
○ شد على: کسی چیز پر زور دینا، پر دباؤ ڈالنا۔ شَدَّ في: پر اصرار کرنا۔ شَدَّ ما و لَشَدَّما: کتنا زیادہ، بہت دفعہ، بہت زیادہ، زور سے، شدت سے۔ لشدّ ما

كان سرورنا اذ: جب (ایسا ہوا) تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شَدَّ أَزْرَهُ یا شَدَّ مِن ازره: کی مدد کرنا، تائید کرنا، کی ہمت افزائی کرنا، کی پشت پناہی کرنا۔ شَدَّ ازرُهُ: توانا، طاقتور، باہمت، مستعد، سرگرم ہونا۔ شَدَّ الزمام: مضبوطی سے لگامیں تھام لینا، صورت حال پر کنٹرول کر لینا۔ شدَّ من عزائمه: کے پکے ارادوں کو تقویت پہنچانا۔ شدَّ على راحلته: سفر پر روانہ ہونا۔ شدَّ الرحال إلى: کے لئے روانہ ہونا۔ شدَّ وثاقَه: کو بیڑیاں ڈالنا، گرفتار کرنا۔ شديدة على: سے چپکنا، لگا رہنا۔ شدَّ على يديه: کے ہاتھ بھینچنا۔ شدُّ الحبل: رسا کشی (tug of war)۔
شديد الاعتناء: بہت متوجہ، بہت محتاط۔ شديد البأس: بہادر، جیالا۔ شديد الشكيمة: ضدی، ہٹ دھرم۔ شديد اللهجة: سخت الفاظ پر مشتمل۔ شديد الوطأة: ظالم، جفاجو، ستمگر، جفاکار، جفاپیشہ، ستم شعار۔ اشدُّ سواداً: زیادہ سیاہ۔ اشدُّ غضباً: زیادہ ناراض، زیادہ غضبناک، زیادہ قہر آلود۔ اشدَّ مايكون: بہت زیادہ۔ روحُهُم اشدّ مايكون تعطشاً إلى العلم: وہ علم کے لئے ازحد سرگرم ہیں۔ ظروف مشدّدة: سنگین حالات۔

شدح: ۱۔ شَدَحَ ـَ شَدْحًا: موٹا ہونا، فربہ ہونا، صفت: شادِح۔
۲۔ إِنْشَدَحَ: چت لیٹ کر پاؤں کو کشادہ کرنا۔ الشادح من الكلاء: وسیع سبزہ۔ الأَشْدَح: ہر وسیع شے۔ الشُّدْحَة و المُشْتَدَح: کشادگی، فراخی۔ کہتے ہیں: لكَ عنه شُدْحَةٌ او مُشتدَح: تمہیں اس کے بارے میں فراخی حاصل ہے۔

شدخ: ۱۔ شَدَخَ ـَ شَدْخًا الرأسَ: سر توڑنا۔ ـــ الرجُلَ: کو گردن کٹنے کی جگہ پر مارنا۔ شَدَّخَ الرأسَ: سر توڑنا۔ تَشَدَّخَ الرأسُ: سر ٹوٹ جانا۔ اِنْشَدَخَ الرأسُ: سر ٹوٹنا۔ الشَّدْخ: ناتمام بچہ، قبل از وقت پیدا ہونے والا بچہ۔ الشَّدْخة من النبات: تازہ و لچکدار اور نرم پودے۔ الشادِخ (فا): چھوٹا و نازک۔ غلامٌ شادِخ: جوان لڑکا۔ الشادِخة: شادخ کا مؤنث۔ المَشْدَخ (مفع): گردن کٹنے کی جگہ۔
۲۔ شَدَخَ ـَ شَدْخًا: اعتدال سے ہٹ جانا۔ ـــ شَدْخًا و شُدُوخًا غُرَّةُ الفرس: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کا ناک تک پھیلنا۔ أَشْدَخ: ناک تک پھیلی ہوئی سفیدی والا گھوڑا۔ امرٌ شادِخ: اعتدال سے ہٹا ہوا امر۔ الشادِخة: گھوڑے کی

پیشانی کی ناک تک پھیلی ہوئی سفیدی۔ الأشدخ من الخیل: ناک تک پھیلی ہوئی سفیدی والا گھوڑا مونث شَدْخاء جمع شُدْخٌ۔ (ح): شیر۔

○ شَدَخ ـ شَدْخًا ہ و شَدَّخ ہ: کو توڑنا، پاش پاش کرنا، توڑ پھوڑ ڈالنا، تہس نہس کرنا، کچل ڈالنا۔

شدف: ا۔ شَدَف ـ شَدْفًا ہُ: کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا۔ الشُدفة: ٹکڑا۔

۲۔ أشْدَف الليلُ: رات کا تاریک ہونا، الشَدَفُ ج شُدُوف: تاریکی، ہر چیز کا وجود۔ الأشْدَف م شَدْفَاء جمع شُدْف (ح) بڑے جسم کا گھوڑا۔

۳۔ شَدِفَ ـ شَدَفًا الفرسُ: گھوڑے کا کلیلیں کرنا۔ تَشَادَفَ: جھکنا۔ الشَدَف (مص) جمع شُدُوف: رخسارہ کا جھکاؤ، اونٹ کے سر کی پیچیدگی۔ الأشْدَف م شَدْفَاء جمع شُدْف: نشاط کے ساتھ چلنے والا اونٹ، مائل رخسارہ والا، بائیں ہاتھ سے کام کرنیوالا۔ کھیو، سخت تر، مشکل تر۔

۴۔ الشَدِف: لمبا تیز کودنے والا۔

○ شادِر جمع شَوَادِر: خیمہ، گودام، بڑی دوکان، ذخیرہ۔

شادوف: جمع شوادیف: نہری پانی بلند کرنے کے لئے پانسے کا لمبا موڑ۔ counterpoised sweep for raising irrigation water

شدق: ا۔ شَدِقَ ـ شَدَقًا: چوڑی باچھوں والا ہونا، صفت: أشْدَق م شَدْقَاءُ جمع شُدق۔ تَشَدَّقَ: فصاحت دکھانے کے لئے باچھیں کھولنا۔ لوگوں کے ساتھ تمسخری کرنا۔ ـ بالكلام و فيه: بلا احتیاط ہر قسم کی گفتگو کرنا۔ الشِدْق و الشَدْق جمع أشْدَاق و شُدُوق: باچھ، جبڑا۔ شِدْقُ الوادی: وادی کا کنارہ۔ الشَدِيق من الوادی جمع شُدُق: وادی کا کنارہ۔ الأشْدَق: چوڑی باچھوں والا فصیح الکلام۔

○ تَشَدَّق ب: شیخی سے بلند آواز میں کسی بات کا اعلان کرنا، کی بڑ ہانکنا، ـــ: چپڑ چپڑ باتیں کرنا، بچوں کی سی باتیں کرنا۔ ـ بالكلام: ضرورت سے زیادہ احتیاط کے ساتھ کچھ کہنا، بناوٹ سے بات کرنا۔ ضحك بملء (ملءَ) شِدْقَيه: کھیس نکالنا، کھسیانی ہنسی ہنسنا۔ أشْدق: چوڑے منہ والا۔ مُتَشَدِّق جمع متشدقون: شیخی خورہ۔

۲۔ الشَدْقَم و الشُدَاقِم: چوڑی باچھوں والا، شیر۔

۳۔ الشَدْيَاق جمع شَدَايِقَه عند للنصاری: کاہن سے ادنیٰ درجہ کا پادری (یونانی لفظ)۔

شدن: شَدَنَ ـ شُدُونًا الظبیُ: ہرن کا طاقت ور ہوکر ماں سے بے نیاز ہونا۔ أشْدَنَت الظبيةُ: ہرنی کا چلنے کے قابل بچہ والی ہونا، صفت: مُشْدِن ج مَشَادِن و مَشَادِين۔ الشادِن (فا): جب مطلق بولا جائے تو مراد ہرن کا بچہ ہوتا ہے۔ الشَدْن (ن): چنبیلی کے مانند پھول دینے والا ایک پودا۔

○ شَدَن ـ شَدْنًا: جوان جانور کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے والا ہونا، دودھ چھڑانے والی عمر والا ہونا۔ شادِن جمع شوادِن: ہرن کا بچہ۔

شده: ا۔ شَدَهَ ـ شَدْهًا الرأسَ: سر کچلنا۔

۲۔ شَدَهَ ـ شَدْهًا الرجُلَ: کو بوکھلا دینا، حیرت میں ڈالنا، چکرا دینا، حیران کرنا، پریشان کرنا۔ شُدِهَ: حیران ہونا، پریشان ہونا، دہشت زدہ ہونا۔ أشْدَهَ الرجلَ: کو بوکھلا دینا، حیرت میں ڈالنا، چکرا دینا، حیران کرنا، پریشان کرنا۔ إشْتَدَهَ و إنْشَدَهَ: حیران ہونا۔ الشُداه و الشُدْه و الشَدَه: حیرت، دہشت۔ المَشَادِه: مشاغل، حیران کرنے والے معاملات۔

○ مَشْدُوه: حیران، پریشان، بوکھلایا ہوا، دہشت زدہ، خوف زدہ۔

شدا: ا۔ شَدَا ـ شَدْوًا الرجُلُ: گا گا کر شعر پڑھنا۔ ـ الشِعرَ: شعر کو راگ سے اور گا کر پڑھنا۔ ـ الابلَ: اونٹ کو حدی گا کر ہانکنا۔ أشْدَى إشْداءً: عمدہ گانا گانا۔

۲۔ شَدَا ـ شَدْوًا من العلم شيئًا: کچھ علم حاصل کرنا صفت: شادٍ جمع شُدَاة و شَادُون۔ الشَدَا: قوت کا بقیہ۔ ـــ من الشيء: چیز کی حد، کنارہ۔ کہتے ہیں: اَخَذَ منه شدًا: اس نے اس سے کچھ حصہ لیا۔ لم يبق من المريض إلّا شَدًا: یہ اس وقت کہتے ہیں جب مریض قریب المرگ ہو۔ الشَدْو (مص): بہت میں سے تھوڑا۔ کہتے ہیں: اخذوا شدوًا من ماله: انہوں نے اس کے کثیر مال سے تھوڑا سا لیا۔

۳۔ شَدَا ـ شَدْوًا ہُ فلانًا او بفلانٍ: کو سے تشبیہ دینا۔ ـ شَدْوَہُ: وہ اس کی چال چلا۔

۴۔ الشَدَا: گرمی، کھجلی، خارش۔

شدی: الشِدِّيت: دھماکہ سے پھٹنے والا مادہ (فرانسیسی لفظ)۔

○ شدا شيئا من العربية: تھوڑی سی عربی جاننا۔ شدو: گیت، گانا۔ شادٍ جمع شادُون: تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ (فی اللغۃ مثلا)۔ شادِيَه: گانے والی۔

شذ: شَذَّ ـ شَذًّا و شُذُوذًا عن الجمهور او الجماعة: جماعت یا عوام سے جدا ہونا۔ ـــ القولُ: قول کا خلاف قیاس ہونا۔ ـ عن الاصول: خلاف قاعدہ ہونا صفت: شاذ ج شُذَّاذ و شَوَاذّ م شاذَّة ج شَوَاذّ۔ ـ شَذَّذَهُ: کو شاذ کرنا، بنانا۔ شَذَّذَهُ: کو شاذ کرنا، بنانا۔ اَشَذَّ: نادر بات کہنا۔ ـ الشيءَ: کو ہٹانا، دور کرنا، شاذ کرنا یا بنانا۔ الشُذَّاذ من الناس: اجنبی لوگ، تھوڑے لوگ۔ کہتے ہیں: جاؤوا شُذَّاذًا: تھوڑے سے لوگ آئے۔ شُذَّاذُ الآفاق: مسافر لوگ۔ الشُذَّان و الشَذَّان: بکھری ہوئی کنکریاں یا پتھریاں۔ شُذَّانُ الناس: متفرق لوگ۔

○ شَذَّ ـ شَذًّا و شُذُوذًا عن: سے علیحدہ ہونا، الگ ہونا، کے باہر ہونا، سے بچنا، گریز کرنا۔ شَذَّ: اکیلا ہونا، تنہا ہونا، خلاف قاعدہ ہونا۔ شذّ علی او عن: سے منحرف ہونا، ہٹنا، تجاوز کرنا، سے نمایاں ہونا، سے مستثنیٰ ہونا، خالی ہونا، محروم ہونا۔ شَذّ: بے قاعدگی، انحراف، خلاف قیاس ہونا۔ (عن): سے استثناء۔ شذوذ: بے قاعدگی، انحراف، خلاف قیاس ہونا، استثناء۔ (عن): سے۔ تجسس، شک، تنگی کردار۔ شاذٍ جمع شُذَاذ و شَوَاذّ: جدا، علیحدہ، الگ، تنہا، بے قاعدہ، خلاف قیاس، خلاف معمول، غیر معمولی، مافوق العادت، استثنائی، عجیب، جمع شواذ: استثناءات، مستثنیات۔ شاذ الاخلاق: منحرف اخلاق والا۔ شاذ الطبع، شاذ الطباع، شاذ الاطوار: تنگی، نامعقول، حد سے متجاوز، پاگل، سودائی۔ شذاذ الآفاق: اجنبی لوگ، ناواقف لوگ۔ شَوَاذَات: خصوصیات، خبطی عادات۔

شذب: ا۔ شَذَبَ ـ شَذْبًا و شَذَّبَ اللحاءَ: چھال چھیلنا۔ ـــ الشيءَ: کو کاٹنا۔ ـــ المالَ: مال بکھیرنا۔ ـــ الشجرَ: درخت کی شاخ تراشی کرنا، اسکی ٹہنیاں چھانگنا۔ تَشَذَّبَ: کٹنا، چھلنا، بکھرنا، چھانگا جانا۔ ـ القومُ: قوم کا متفرق ہونا۔ الشَذَب ج أشْذَاب: متفرق لکڑیاں، گھر کا سامان، کھائی ہوئی گھاس کا بقیہ حصہ۔ کہتے ہیں: فی الارض شَذَبٌ من الكلاء ومالهٗ الاشَذَبٌ من العسكر: ان جملوں میں شذب بقیہ کے معنی میں ہے۔ درخت کے ٹکڑے، چھلکے۔ الشَذَبَة: شَذَب کا واحد: درخت کی کاٹی ہوئی شاخ۔ الشاذِب (فا). وطن سے دور۔ المِشْذَب: شاخ تراشی کا آلہ۔ المُشَذَّب (مفع): کانٹے اتارا ہوا تنہ۔ فرسٌ مُشَذَّب: لمبا

پتلا گھوڑا۔

۲۔ شَذَبَ ـ شَذبًا عنه: سے دفع کرنا، ہٹانا۔ شَذَّبَ هٗ: کو دھتکارنا، نکال باہر کرنا۔ شَذَّبَ عنهُ: سے دفع کرنا، ہٹانا۔

۳۔ الشَوذَب من الرجال: لمبا خوبصورت قد والا، ہر چیز کا بہترین حصہ۔

○ شَذَبَ ـ شَذبًا هٗ: (کو) کاٹ ڈالنا، الگ کرنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ ــــ هٗ: درخت کی شاخوں اور باڑھوں کی کانٹ چھانٹ کرنا، تراش کر درست کرنا، تراشنا، چھانٹنا۔ ــــ هٗ کو بدلنا، کا معالجہ کرنا، کی ترمیم کرنا۔ شَذَّبَ هٗ کو بدلنا، کا معالجہ کرنا، میں ترمیم کرنا۔

شذر: ا۔ شَذَّرَ النظمَ: لڑی کو منکے سے جدا کرنا۔ کہتے ہیں: شَذَّرَ کلامَه بشعرٍ: کلام میں شعر داخل کرنا۔ تَشَذَّرَ القومُ: لوگوں کا متفرق ہو کر اپنے اپنے راستہ لگنا۔ الشَذر واحد شَذرَة ج شَذرات و شُذُور: سونے کے ریزے یا ٹکڑے جو کان سے چنیں جائیں۔ منکے جن سے جواہر کی لڑی میں فاصلے دیئے جائیں، چھوٹے موتی۔ شَذَرَ و شِذَرَ: کہتے ہیں: تفرقوا شَذَرَ مَذَرَ و شِذَرَ مِذَرَ: وہ مختلف سمتوں میں بکھر گئے۔

۲۔ شَذَّرَ بفلان: کو بدنام کرنا۔ تَشَذَّرَ: لڑائی یا شر کے لئے تیار ہونا، غصے ہونا، چستی سے کام لینا۔ ــــ هٗ: کو ڈانٹنا، دھمکی دینا۔ ــــ القومُ فی الحروب: حد سے گزرنا۔

۳۔ الشَوذَر: بڑی چادر، بے آستین قمیص۔

○ تَشَذَّرَ: بکھرنا، متفرق ہونا۔ شَذرَة جمع شَذَرات و شُذُور: ذرہ، چھوٹا سا ٹکڑا، حصہ۔

شذف: شَذَفَ ـ شَذفًا: کہا جاتا ہے: ما شَذَفتُ منه شیئًا: میں اس سے کوئی چیز حاصل نہ کر سکا (یہ کلمہ نفی کے بغیر استعمال نہیں ہوتا)۔

شذم: الشَذام: بچھو یا بھڑ کا ڈنک، نمک۔ الشَیذُمان (ح): بھیڑیا۔ الشَیذُمانة (ح): تیز رو جوان اونٹنی۔

شذا: ا۔ شَذَا ـ شَذوًا: مُشک لگانا۔ الشَذو (مص): مُشک، مُشک کی خوشبو۔ الشَذا: بو کی تیزی، لکڑی کے ٹکڑے۔ الشَذاة ج شَذَوات: شذا کا واحد۔

۲۔ شَذَا ـ شَذوًا و شَذّٰی تَشذِیَةً بالخبر: خبر کو معلوم کر کے اس کو سمجھانا۔

۳۔ شذا ـ شَذوًا و أشذَی فلانًا: کو اذیت دینا۔ الشَذا: اذیت، برائی۔ ـ (ح): مکھی۔

۴۔ أشذَی هٗ عنه: کو سے دور ہٹانا۔

۵۔ الشذا: نمک، خارش، ایک قسم کی کشتی۔ الشَذاة: قوت کا بقیہ، پرانی چیز۔

شرّ: ا۔ شَرَّ ـ شَرًّا و شَرارةً و شَرَرًا: شریر ہونا، شرانگیز ہونا، صفت شر مونث شرّة ج أشرار و شِرار و أشِرّاء۔ شَرَّرَ و أشَرَّ فلانًا: کو برائی کی طرف نسبت کرنا، کو دھتکارنا۔ شارَّهٗ: سے جھگڑا کرنا۔ تَشَرَّرَ: اپنے آپ کو برا ظاہر کرنا۔ تَشارًّا: آپس میں جھگڑنا۔ الشَرّ (مص) جمع شُرُور: برائی، کینہ، دشمنی، جنگ، عیب۔ کہتے ہیں: هو شَرُّ الناس و هم شِرار و أشرار و أشرّاءُ الناس و هی شَرَّة او شُرَّی النساء: یعنی وہ سب سے برا ہے یا ہیں وہ سب سے بری ہے یا ہیں۔ (اصل میں اشرّ (اسم تفضیل ہے) کثرت استعمال کی وجہ سے ہمزہ حذف ہوگئی جیسے خیر میں) جنگ۔ الشَرَّة: اسم تفضیل شر کا مونث ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں: هی شرَّةُ النساء جس طرح کہتے ہیں: هی خیرةُ النساء۔ الشُرّ: مکروہ ناپسندیدہ۔ کہتے ہیں: ماقلت ذلك لِشُرِّك یعنی لشیء تکرهه: تمہاری کراہت کی وجہ سے میں نے یہ نہیں کہا۔ الشِرّ: بمعنی شرّ۔ الشَرِیر ج أشرار و أشرّاء م شَرِیرَة: برا۔ الشِرِّیر ج شِرِّیرُون: بہت برا، ابلیس کا لقب۔

۲۔ شَرَّ ـ شَرًّا اللحمَ أو الثوبَ: گوشت یا کپڑے کو خشک ہونے کے لئے دھوپ میں رکھنا۔ شَرَّرَ اللحمَ او الثوبَ: گوشت یا کپڑے کو دھوپ میں یا ہوا میں سوکھنے کے لئے رکھنا۔ أشَرَّ اللحمَ او الثوبَ: بمعنی شرّرہ: یعنی گوشت یا کپڑے کو دھوپ میں یا ہوا کے سامنے رکھنا تا کہ وہ خشک ہو جائے۔ ــ الشیءَ: کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ الإشرارة جمع أشارِیر: پنیر وغیرہ سکھانے کی چٹائی۔ اونٹوں کا بڑا گلہ۔ خشک گوشت کا ٹکڑا۔ الشَرّان واحد شَرّانة (ح): مچھر کے مشابہ ایک کیڑا جو چہرہ کے سامنے بغیر کاٹے اڑتا ہے۔ بھنگا۔

۳۔ شَرَّ ـ شَرًّا فلانًا: پر عیب لگانا، کی ہتک کرنا، کو غیر اہم سمجھنا، پر اعتراض کرنا، نکتہ چینی کرنا، کی عیب جوئی کرنا۔ شَرَّرَ و أشَرَّ فلانًا: کو لوگوں میں بدنام کرنا۔

۴۔ شَرَّ ـ شَرًّا الماءُ: پانی کا لگاتار قطرہ قطرہ گرنا اور بہنا۔ ــ الرمادَ: دھول یا راکھ ڈالنا (عام زبان میں)

۵۔ الشِرَّة: تیزی، چستی، غصہ، طیش، حرص، لالچ۔ شِرَّة الشباب: جوانی کی چستی۔ الشَرَر و الشَرار واحد شَرَرة و شَرارة: آگ کی اڑنے والی چنگاریاں۔

الشَرِیر ج أشِرَّة: سمندر کا ساحل۔

۶۔ شَرشَرَ الشیءَ: کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پھاڑنا، کاٹ کر جھاڑنا۔ ــ السِکّینَ: چھری کو پتھر پر تیز کرنا۔ ــ تِ الماشیةُ النباتَ: مویشی کا گھاس چرنا۔ الشَرشَر و الشِرشِر واحد شَرشَرَة و شِرشِرَة (ن): زمین پر پھیلی ہوئی ایک قسم کی بیل۔ الشِرشِرة: ہر چیز کا ٹکڑا۔ (ن): ایک قسم کی گھاس۔

۷۔ شَرشَرَ الماءَ: پانی کو لگاتار ٹپکانا یا قطرہ قطرہ ٹپکانا۔ ــ الماءُ: پانی کا لگاتار قطرہ قطرہ گرنا یا بہنا۔ تَشَرشَرَ منه: سے بکھرنا، متفرق ہونا۔ شِواءٌ شَرشَرٌ: بھنا ہوا گوشت جس سے چربی قطرہ قطرہ ٹپکتی ہو۔ شَراشِرُ الذَنَب: دم کے اطراف۔

۸۔ الشَراشِر: نفس، تمام بدن، (کہتے ہیں: القی علیه شَراشِرَهٗ: اس نے اس سے اس قدر محبت کی کہ اپنی جان کو اس کی محبت میں قربان کر دیا) بوجھ۔ الشُرشُور ج شَراشِیر (ح): ایک قسم کی چھوٹی چڑیا۔ اسے "برقش" بھی کہتے ہیں۔

○ شَرَّ ـ شَرًّا و شِرَّةً: برا، گناہگار، بدکار، فاسق، بداعمال، بدطینت، آوارہ، غلط، کینہ پرور، بغض پرور، کینہ جو، بدباطن، برا چاہنے والا ہونا۔ شَرّ جمع شُرور: برائی، بدی، گناہ، مصیبت، آفت، تباہی، بربادی، بے انصافی، ضرر، نقصان، زخم، بداعمالی، فسق و فجور، بدطینتی، ضرر رسانی، شرارت، عناد، بغض، بد باطنی، کینہ۔ شر جمع اشرار: برا، گنہگار، بدکار، فاسق، بداعمال، بدطینت، مجرم۔ شرّ بطور اسم تفضیل: زیادہ برا وغیرہ۔ هَزَمَهم شرَّ هزیمةٍ: اس نے انہیں شکست فاش دی۔ شَرارَة جمع شرارات: چنگاری۔ شَمعةُ الشرارة: سپارک پلگ۔ مِفتاح الشرارة: اگنیشن کی چابی۔ Ignition key۔ آتش زن (موں کا)۔ شَرّار: ضوفشاں، ضوبار، شعلہ فشاں۔

شرب: ا۔ شَرِبَ ـ شُربًا و شَربًا و شِربًا و مَشرَبًا و تَشرابًا الماءَ: پانی پینا۔ پانی سے سیراب ہونا۔ ــ شَرَبًا: پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا (ضد)۔ کہتے ہیں: اکل علیه الدهرُ و شَرِبَ: وہ ہلاک ہو گیا اور کہتے ہیں: اکل فلانٌ مالی و شَرِبَهٗ: فلاں میرا مال کھا پی گیا، یعنی فنا کر دیا۔ شَرَّبَ هٗ: کو پانی پلانا۔ ــــ قصبُ الزرعِ: کھیتی کے ڈنٹھل کا سیراب ہونا۔ شارَبَ مُشارَبَةً و شِرابًا هٗ: کے ساتھ پینا۔ أشرَبَ هٗ: کو پلانا۔ ــ الرجُلُ: پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ (ضد)۔ تَشَرَّبَ الثوبُ العرقَ:

کپڑے کا پسینہ کو چوسنا۔ تَشَارَبَا: ایک دوسرے کے ساتھ پینا۔ إشْرَأَبَّ للشيء و إليه: گردن لمبی کر کے کسی کی طرف دیکھنا۔ اس سے اسم الشُرَأبِيبَة ہے۔ (إطْمَأَنَّ سے طُمَأنِينه کی طرح) الشَرْب (مص) جمع شارب (فا) الشِرْب (مص) ج أشْراب: پینے کا پانی، پینے کا وقت، پانی کا حصہ، گھاٹ۔ الشَرْبَة: شرب کا اسم مرۃ، ایک بار پینا جو یکبارگی پیا جائے، برتن جس سے پیا جاتا ہے۔ (طب): جلاب۔ مسہل۔ الشُرْبَة: سیراب ہونے کے اندازہ کا پانی۔ الشَرَبَة ج شَرَب و شَرَبات: زیادہ پینا۔ الشَرَاب ج أشْرِبَة: ہر پینے کی چیز۔ الشَرَابِيّ: سقہ، بہشتی۔ الشُرَبَة و الشَرَّاب و الشِرِّيب: بہت پینے والا، بسیار نوش، شراب کا دلدادہ۔ الشَرَّابة: الشَرَّاب کا مؤنث۔ الشارب جمع شَرْب (فا): (جیسے راکب ورَکب)۔ الشارِبَة ج شاربات و شوارب: الشارب کا مؤنث۔ دریا کے کنارے رہائش پذیر لوگ۔ الشوارب (ع ا): حلق کی رگیں، گردن میں پانی کی گزرگاہیں۔ الشُرُوب: پینے والے۔ الشَرُوب: بہت پینے والا، پینے کا یا شراب کا دلدادہ۔ ماءٌ شَرُوب: پینے کا پانی، پینے کے قابل پانی۔ الشَرِيب: بہت پینے والا، پینے میں شریک شخص، جو آپ کے ساتھ اپنے اونٹوں کو گھاٹ پر لائے۔ جو آپ کے ساتھ پینے کی چیز طلب کرے یا جسے آپ کے ساتھ پلایا جائے۔ ماءٌ شَرِيب: پینے کے لائق پانی۔ المَشْرَب جمع مشارب: پانی، پینے کی جگہ، آج کل خواہش نفس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں: وَافَقَ الامرُ مَشْرَبَهُ: معاملہ اس کی خواہش کے مطابق ہوا۔ المَشْرَبَة و المَشْرُبَة ج مَشَارِب (ز): نرم اور ہمیشہ سرسبز رہنے والی زمین، پینے پلانے کا کمرہ، پینے کی جگہ۔ کہتے ہیں: طعامٌ ذو مَشْرَبَةٍ: بہت پیاس لگانے والا اور پانی پلانے والا کھانا۔ المِشْرَبَة ج مَشَارب: پانی پینے کا برتن۔ المَشْرُوب (مفع): ہر وہ شے جو پی جائے، ہر پینے کی چیز۔

۲۔ شَرِبَ ـ شَرَبًا: پیاسا ہونا، پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ أشْرَبَ الرجُلُ: پیاسا ہونا، پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ الشَرَبَة ج شَرَب و شَرَبات: گرمی کی شدت، پیاس۔

۳۔ شَرِبَ ـ شُرْبًا و شَرْبًا و شِرْبًا و مَشْرَبًا و تَشْرَابًا السنبلُ الدقيقَ: کھیتی کی بالیوں میں دانوں کا سخت ہونا اور پکنے کے قریب ہونا۔ شَرَّبَ السنبلُ الدقيقَ: کھیتی کی بالیوں میں گودا آنا۔ أشْرَبَ و أشْرِبَ الزرعُ: کھیتی کی بالیوں میں گودا آنا۔

۴۔ شَرِبَ ـ شَرْبًا به: کسی پر جھوٹ بولنا۔ أشْرَبَ به: کسی پر جھوٹ بولنا۔ کہتے ہیں: أشْرَبْتَني مالم أشْرَب: اس نے میرے بارے میں ایسی چیز کا دعوی کیا جس کو میں نے نہیں کیا۔

۵۔ شَرَبَ ـ شَرْبًا الكلامَ: کلام سمجھنا۔

۶۔ شَرَّبَ القربةَ: نئی مشک پر مٹی اور پانی ملنا تاکہ اس میں پانی خوشگوار رہے۔ أشْرَبَ اللونَ: کپڑے کو گہرا رنگنا۔ ـــ الثوبَ حمرةً: کپڑے کو سرخ رنگ رنگنا۔ کہتے ہیں: أُشْرِبَ حُبَّ فلان: اس کے دل میں فلاں کی محبت بیٹھ گئی۔ إسْتَشْرَبَ لونُهُ: رنگ کا تیز اور گہرا ہونا۔ الشُرْبَة: چہرہ کی سرخی۔ کہتے ہیں: في وجهه شُرْبَةٌ من حُمْرَةٍ: اس کے چہرے پر سرخی ہے۔

۷۔ أشْرَبَ الإبلَ: اونٹ باندھنا۔

۸۔ الشَرَبَّة: گھاس والی زمین جس میں درخت نہ ہوں، وادی کا کنارہ، راستہ، طریقہ۔ کہتے ہیں: ماز ال فلانٌ علی شَرَبَّةٍ واحدة: وہ ابھی تک ایک ہی طریقہ پر ہے۔ الشَرَّابة ج شَرَارِيب: ٹوپی وغیرہ کا پھندنا۔ الشارِب: جانوروں کی کمزوری۔ شارِبُ الرجُلِ: مونچھ، دونوں طرف کا لحاظ کرتے ہوئے تثنیہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں: شاربَا الرجُل: آدمی کی مونچھیں اور اطراف واجزاء کا اعتبار کرتے ہوئے جمع بھی لاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں: شوارب الرجل۔

۹۔ الشُرَابِت: سخت ہتھیلی والا۔ (ح): شیر۔

○ شَرِبَ ـ شُرْبًا و مَشْرَبًا ہ: (کچھ) پینا، کی چسکی لگانا۔ شرب في حبه: کا جام صحت نوش کرنا۔ شَرَّبَ ہ ہ: کو پینے کے لئے کچھ دینا، کو کچھ پلانا۔ ـــ ہ ب: کو سے شرابور کرنا، بھگونا، تر کرنا، سراب کرنا، کے رنگ میں رنگ دینا۔ شارب ہ: کے پاس بیٹھے ہوئے، کی صحبت میں پینا۔ أشْرَبَ ہ ہ: کو پینے کے لئے کچھ دینا، کو کچھ پلانا ـــ ہ ہ/ب: کو سے شرابور کرنا، بھگونا، تر کرنا، سیراب کرنا ـــ ہ ہ: کے رنگ میں رنگ دینا، کے کچھ خوب ذہن نشین کرنا، دل نشین کرنا، کو کا رنگ چڑھانا، کے رگ و پے میں کچھ ساری کرنا، کے دل میں کچھ ڈالنا۔ أشْرِبَ ہ: سے پُر ہونا، سے بھرا ہوا ہونا، کے رنگ میں رنگا ہوا، کچھ رگ و پے میں جاری و ساری ہونا، دل میں ہونا، میں بھیگا ہونا، کچھ ڈالا یا انڈیلا ہوا ہونا، زندگی کی روح پھونکا ہوا ہونا، سے مغلوب ہونا، سرایت شدہ ہونا۔ أشْرِبَ بہ مالم يَشْرب: سے کوئی بات غلط منسوب کرنا۔ تَشَرَّبَ ہ: کو بھگونا، تر کرنا، جذب کرنا، چوس لینا، مدغم کرنا، کو قبول کرنا، اخذ کرنا۔ ـــ ہ ب: میں کچھ سرایت کیا ہوا ہونا، کے رنگ میں رنگا ہوا ہونا، کے رگ و پے میں ساری ہونا، کی روح میں پھونکا ہوا ہونا، میں انڈیلا یا ڈالا ہوا ہونا۔ ـــ ب: سے بھرا ہوا، پُر ہونا۔ شُرْب: پینا، مشروب، جذب۔ شُرْبَة: مشروب، گھونٹ، چسکی، نگلنا، ہڑپ کرنا، (دوا کی یا پینے والی دوا کی) خوراک۔ شراب: مشروب، شراب، پھل کا رس، پھل کا شربت، شربت۔ شراب التُفَّاح: سیب کا جوس، سیب کی شراب (cider)۔ شراب البرتقال: مالٹوں کے رس کا مشروب (orangeade) شَرَّاب: بلانوش، بڑا شرابی، مے نوش۔ شَرِيب: پینے کے قابل، نوشیدنی۔ شِرِّيب: بلانوش، بڑا شرابی، مے نوش۔ شَرَّابَة و شُرَّابه جمع شراريب: پھندنا، جھالر، گچھا، لچھا، خواتین کے تراشے ہوئے بال (a style of haircut)، ایک سدابہار جھاڑی (ہولی)۔ مَشْرَب: پینا (کھانے کے مقابلہ میں)۔ جمع مشارب: پینے کی جگہ، پانی کا سوراخ، ناند (پینے کے پانی والا) پینے کے پانی کا ذخیرہ یا چشمہ، طعام خانہ، ریستوران (restaurant)، ہوٹل کی شراب گاہ (بار bar): رغبت، میلان، ذوق، تحریک، مدرسہ (فکر کا)۔ مَشْرَبَة جمع مشارِب: پینے کی جگہ، پانی کا سوراخ، پانی کا ناند، پینے کے پانی کا ذخیرہ، چشمہ۔ مَشْرَبِية و مَشْرَبِيَة: چوبی جھروکہ، کھپریلی چھت کا بالا خانہ۔ مَشْرَبِية: ایک قسم کا پینے کا برتن، منقش مرتبان، گلدان۔ مشروبات روحية: الکحلی مشروبات۔ شوربه و شوربا و شُرْبَة: یخنی، آش۔ شُرَّاب جمع شُرَّابات: جراب، موزہ۔

۱۰۔ شَرْبَقَ الثوبَ: کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

۱۱۔ الشَرْبِين (ن): چیڑھ کا درخت۔

شرث: شَرِثَ ـ شَرَثًا و إنْشَرَثَتْ يَدُهُ: پھٹے ہوئے ہاتھ والا ہونا۔ ـ الرجُلُ: کی ہتھیلی کی پشت کا سردی سے موٹا ہو کر پھٹ جانا۔ صفت: شَرِث۔ ـــ ت النعلُ: جوتے کا تڑخنا۔ الشَرْث: ہر پرانی بوسیدہ چیز۔ الشَرْثَة: پرانا جوتا۔ الشَرِث من السيوف والأسنة: تیز تلوار اور بھالا۔

شرج: ۱۔ شَرَجَ ـ شَرْجًا الشيءَ: کو جمع کرنا۔ ـــ الشراب بالماء: شراب میں پانی ملانا۔ ـــ الحجارةَ: پتھروں کو ایک دوسرے سے ملا کر تہ بہ تہ کرنا۔ ـــ الخريطةَ: تھیلے کے کناروں کو ملا کر باندھنا۔ شَرَّجَ الحجارةَ:

پتھروں کو ایک دوسرے سے ملا کر تہہ بتہہ کرنا۔ ـــ الخریطة: تھیلے کے کناروں کو ملا کر باندھنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کو دور دور ٹانکے لگا کر سینا۔ عوام سرّجَ بولتے ہیں۔ شَرِجَ اللحمُ: گوشت میں چربی ملنا۔ أشْرَجَ الحجارةَ: پتھروں کو ایک دوسرے سے ملا کر تہہ بتہ کرنا۔ ـــ الخریطةَ: تھیلے کے کناروں کو ملا کر باندھنا۔ ـــ صَدْرَہ علی کذا: کوئی بات دل میں چھپانا۔ تَشَرَّجَ الشيءُ في الشيءِ: ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا، گھل مل جانا۔ الشَرَجُ ج أشْرَاج: کاج۔ یہ اس معنی میں اسم جنس ہے۔ الشَرِيْجَة ج شَرَائِج: کھجور کے پتوں کا بنا ہوا گون۔ بانس کا ٹھٹھر جو دوکان کے دروازے پر لگایا جائے۔ التَشْرِيج: دور دور ٹانکوں کی سلائی۔ عوام اسے تسریج کہتے ہیں۔

۲۔ شَارَجَهُ: کے مشابہ ہونا۔ اسی سے ہے: فتیات مُشارجات: ہم عمر لڑکیاں۔ تَشَارَجَا: باہم مشابہ ہونا، ہم شکل ہونا۔ الشَرْجُ (مص) ج شِرَاج و شُرُوج: نوع۔ کہتے ہیں: هذا شَرْجُ ذاك: یہ اس کی مثل ہے۔ هُما شرجٌ واحد: وہ دونوں ایک نوع کے ہیں۔ الشَرِيج ج شَرائِج: مانند، مثل۔ کہتے ہیں: هو شريجُه: وہ اس کی مثیل ہے۔

۳۔ شَرَجَ ـ شَرْجًا: جھوٹ بولنا۔

۴۔ إنْشَرَجَ الشيءُ: چیز کا پھٹ کر دو ٹکڑے ہونا۔ الشَرْجُ جمع شِرَاج و شُرُوج: فرقہ۔ کہتے ہیں: اصبحوا في الأمر شرجَين: وہ اس معاملہ میں دو فرقے ہو گئے۔ وہ دو فرقوں میں بٹ گئے۔ الشَرَجُ جمع أشْرَاج: کمان کی ترخن۔ الشَرِيج جمع شَرائِج: لکڑی کے دو مساوی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا۔ وہ لکڑی جس کی دو کمانیں بنائی جائیں۔ قوسٌ شَرِيج: پھٹی ہوئی کمان۔

۵۔ الشَرْجُ جمع شِرَاج و شُرُوج: نرم زمین کی طرف پانی بہنے کی نالی۔ الشَرْجَة: نرم زمین کی طرف پانی بہنے کی نالی، وہ گڑھا جس میں کھال بچھا کر اونٹوں کو پانی پلایا جائے۔ الشَرَجُ جمع اشراج: وادی کی چوڑی جگہ۔ الشَرِيْجَة جمع شرائج: تیر کے پر کو جوڑنے کا پٹھا۔ الشِيْرَج: تلوں کا تیل۔ عوام اسے سیرج کہتے ہیں۔ (فارسی لفظ)۔ سهمٌ مُشْرَج: پیچھے سے جڑے ہوئے پر والا تیر۔

۶۔ الشَرْجَب (ح): عمدہ گھوڑا۔ لمبی ٹانگوں والا گھوڑا۔ الشَرْجَبَان و الشُرجُبَان: ایک قسم کا بینگن سے مشابہ پودا جو رنگائی کے کام آتا ہے۔

○ شَرَج جمع أشْرَاج: روزن، سوراخ، چھلا، کاج، تکمہ۔ مقعد، دبر۔ شَرَجي: مقعدی، دبری۔

شرح: ۱۔ شَرَحَ ـ شَرْحًا اللحمَ: گوشت کے لمبے لمبے ٹکڑے کاٹنا۔ شَرَّحَ الشيءَ: کو الگ الگ حصوں میں کاٹنا۔ ـــ قطعةَ اللحم: گوشت کے ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے پارچوں میں کاٹنا۔ الشَرْحة: گوشت کا ٹکڑا۔ الشَرِيح و الشرية جمع شَرائح: گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لمبا ٹکڑا۔ عِلمُ التشريح (طب): لاش کی چیر پھاڑ، علم تشریح، تشریح اعضاء۔

۲۔ شَرَحَ ـ شَرْحًا المسألةَ: مسئلہ کے گہرے مطالب کو کھولنا، بیان کرنا۔ ـــ الکلامَ: کلام سمجھانا۔ ـــ الشيءَ: چیز یا بات کو کھولنا، کشادہ کرنا۔ ـــ إلی الشيء: میں رغبت کا اظہار کرنا۔ کہتے ہیں: فلانٌ يشرح إلى الدنيا: یعنی وہ دنیا میں اپنی رغبت کا اظہار کرتا ہے۔ ـــ صَدْرَہ للشيء و بالشيء: پر خوش ہونا۔ شَرَّحَ الشيءَ: کو کھولنا اور ظاہر کرنا۔ اسی سے ہے: شَرَّحَ التينَ تشريحًا: انجیر کو پھاڑ کر سوکھنے کے لئے دھوپ میں رکھنا۔ أشْرَحَ صدرَہ: شَرَحَ صَدْرَہ کے معنی میں ہے۔ إنْشَرَحَ: کشادہ ہونا۔ کہتے ہیں: شرح اللہ صدرہ لقبول الخير فانشرح: اللہ تعالیٰ نے اس کے سینہ کو خیر قبول کرنے کے لئے کشادہ کر دیا اور وہ کشادہ ہو گیا۔ الشَرْح عند المُؤَلِّفين: تفصیل سے سمجھانا، تفسیر، تشریح، توضیح، وضاحت، بیان۔ الإنشراح: خوشی، شادمانی، مسرت۔

۳۔ شَرَحَ ـ شَرْحًا الشيءَ: کی حفاظت کرنا۔

○ شَرَّحَ خاطِرَہ: کو خوش کرنا۔ شَرِيْحَة جمع شرائح: خوردبین کا شیشہ۔ مَشْرَحَة: آپریشن کا کمرہ، آپریشن کی میز، لاش کے معائنہ کا کمرہ۔ شارح: مفسر، تشریح کرنے والا، توضیح کرنے والا۔ مُشَرِّح: ماہر تشریح الاعضاء، چیر پھاڑ کا ماہر۔

شرخ: ۱۔ شَرَخَ ـ شَرْخًا و شُرُوخًا نابُ البعير: اونٹ کا دانت نکلنا۔ ـــ شُرُوخًا الصبيُّ: بچہ کا جوان ہونا صفت شارخ جمع شَرْخ جیسے صَاحِب و صَحْب۔ الشَرْخ (مص) ج شُرُوخ: اصل، نوجوانی۔ کہتے ہیں: هو في شرخ الشباب: وہ نوجوانی کی عمر میں ہے، اول امر، رگ، چیز کا ابھرا ہوا حصہ۔ شَرْخَا الرَحْل: کجاوہ کا اگلا اور پچھلا حصہ۔ کہتے ہیں: فلانٌ لا يزال بين شَرْخَيْ رَحْله: وہ ہمیشہ سفر ہی میں رہتا ہے۔

۲۔ الشَرْخ جمع شُرُوخ: ہم جولی، ہم عمر، کہتے ہیں: هو شَرْخي: وہ میرا ہم عمر ہے: هما شَرْخَان: وہ دونوں ہم جولی ہیں یا ہم عمر ہیں، اونٹ کے ہر سال کے بچے۔

۳۔ الشُرْخُوب ج شَرَاخِيب (ع ا): ریڑھ کی ہڈی۔

○ شَرْخ: عنفوان شباب، جوانی، شباب۔ شَرَخَ ـ شرخًا: درز پڑنا، بال آنا، تڑقنا، کرچ اڑنا۔ شرخ جمع شروخ: درز، دراڑ، شگاف، بال ٹوٹنا۔

شرد: ۱۔ شَرَدَ ـ شَرْدًا و شُرُودًا و شِرَادًا و شِرادًا: بدکنا۔ ـــ علی اللہ: اللہ کی اطاعت سے نکلنا صفت: شارِد ج شُرَّد و شُرُود جمع شُرُد م شارِدَہ جمع شَوَارِد و شُرَّد۔ شَرَّدَہُ: کو دھتکارنا، ڈرانا۔ کہتے ہیں: فلانٌ مُطَرَّدٌ مُشَرَّدٌ: اسی طرح کہتے ہیں: فلان طريد شريد: وہ دھتکارا ہوا ہے۔ ـــ شملَهُم: جمعیت کو متفرق کر دینا۔ ـــ بفلان: کے عیب لوگوں کو سنانا۔ أشْرَدَہُ: کو دھتکارنا، نکال دینا، بے گھر کرنا۔ تَشَرَّدَ القومُ: لوگوں کا چلا جانا۔ الشَرُود: وہ بارش جسے ہوا اڑا کر گھر کے اندر لے جائے (عام لوگوں کی زبان میں)۔ شوارد اللغة: نوادر کلمات اور غیر مانوس الفاظ۔ الشريد: دھتکارا ہوا، ہکالا ہوا۔ الشَرِيْدَة ج شَرَائِد: شرید کا مونث، چیز کا بقیہ۔

۲۔ الشِرْدَاح: موٹا نرم پتلے گوشت والا۔

○ شَرَدَ ـ شِرادًا و شُرُودًا: (گھوڑے کا) بھاگ نکلنا؛ فرار ہونا، بھاگنا، بھاگ جانا، نو دو گیارہ ہو جانا، مارے مارے پھرنا، ادھر ادھر پھرنا، منہ اٹھائے پھرنا، گم کردہ راہ ہو جانا، بھٹکتے پھرنا، (خیالات کا) بٹا ہوا ہونا۔ شرد ذِهنُهُ: خیالات میں کھو جانا، گم ہو جانا، محو ہو جانا، مستغرق ہونا اور پراگندہ دماغ ہونا۔ شرد به الفكرُ: وہ خیالات میں گم ہے۔ شَرَّدہ: کو ڈرا کر بھگا دینا، باہر نکال دینا، ڈرا دینا۔ تشرّد: آوارہ گردی کرتے پھرنا، بے خانماں زندگی بسر کرنا۔ شُرُودُ الفِكر: پراگندگی افکار، استغراق۔ شريد: بھگوڑا، جلاوطن، تارک وطن، بے خانماں، نکالا ہوا، آوارہ گرد، خدائی خوار، کوچہ گرد، ہرزہ گرد، مارا مارا پھرنے والا، خانہ بدوش۔ تشريد: نکالنا، اخراج، دیس نکالا، جلا وطنی، بے دخلی، خانہ بدوشی کی زندگی، آوارہ گردی، بے خانماں ہونا۔ حيلة التشريد: بے خانماں زندگی، آوارہ گردی۔ تَشَرُّد: آوارہ گردی، خانہ بدوشی کی زندگی۔ شوارد اللغة: زبان کی بے قاعدگیاں یا خلاف قیاس باتیں۔ شارد

النظر (النظرات): خلا میں گھورنے والا، خالی نظر۔ لا تفوته شارِدَة و لا واردة: اس سے کچھ نہیں بچتا، وہ کچھ بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ مَشَرَّد: بھگوڑا، پنا گیر، بے خانماں، پراگندہ۔ مُشَرَّدُ البال: بوکھلایا ہوا، پریشان، گھبرایا ہوا، مُتَشَرِّد: بے گھر، آوارہ گرد، بے خانماں، خانہ بدوش، من چلا۔

شرذ: شَرَّذَ الجمعَ: (بھیڑ، مجمع) کو متفرق کرنا۔ الشِرْذِمَة جمع شَرَاذِم و شَرَاذِيم: لوگوں کی چھوٹی جماعت۔ ثيابٌ شَرَاذِم: پھٹے ہوئے کپڑے۔

شرز: ۱۔ شَرَزَ ـ شَرْزاً هُ: کو کاٹنا، صفت: شارِز جمع شُرّاز۔ شَرَّزَه: کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الشيراز جمع شَوَارِيز و شَرَارِيز: پانی نکلا ہوا دہی۔ عوام اسے اللبنة المقطوعة کہتے ہیں۔

۲۔ شَرَّزَهُ: کو ایذا دینا، گالی دینا۔ شَارَزَ: بد خلق ہونا۔ ـ الرجُلَ: سے جھگڑنا، دشمنی کرنا۔ أَشْرَزَهُ: کو ہلاکت اور سختی میں ڈالنا۔ الشَرْز (مص): قوت، موٹائی، سختی، موٹا، سخت جیسے: عذَّبَهُ الله عذابا شَرْزًا: اللہ تعالیٰ نے اسے سخت عذاب دیا۔ الشَرْزَة: اسم مرة، ہلاکت اور سختی۔ الشُرَّاز: وہ جو لوگوں کو سخت عذاب دیں۔ المُشارِز (فا): سخت، بد خلق۔ المُشَرَّز: باہم بندھا ہوا، ملائے ہوئے کناروں والا۔

شرس: ۱۔ شَرِسَ ـ شَرَاسَةً و شَرَسًا و شَرِيسًا: بد خلق ہونا صفت: شَرِس و شَرِيس و أَشْرَس۔ شَرَسَ ـ شَرْسًا هُ: کو سخت کلامی سے جلانا۔ شَارَسَ مُشَارَسَةً و شِرَاسًا هُ: کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا۔ تَشَارَسَ القومُ: آپس میں دشمنی رکھنا۔ الشَرْساء: أَشْرَس کا مؤنث۔ الشَرِيس (مص): بد خلقی، جھگڑالو پن۔ (کہتے ہیں: قد لان شَرِيسُهُ: یعنی اس کی بدمزاجی اور جھگڑالو پن کچھ نرم پڑ گیا) بد خلق، بدمزاج، سخت جھگڑالو۔ کہتے ہیں: هو ذو شريس: وہ بد خلق اور سخت جھگڑالو ہے اور له نفسٌ شريسة: وہ جھگڑالو ذہن والا ہے۔

۲۔ شَرِس ـ شَرَسًا ت الماشيةُ: مویشی کا کانٹے دار چھوٹے پودے چرتے رہنا۔ شَرَسَ ـ شَرَاسَةً ت الماشيةُ: مویشی کا خوب چرنا۔ الشَرَس (مص) والشَرْس والشِرْس: چھوٹے کانٹے دار پودے۔ شَرِيس الأَكل: بہت کھانے والا۔ أَرْضٌ شَرِيسَةٌ و مُشْرِسَةٌ: چھوٹے چھوٹے کانٹے دار پودوں کی کثرت والی زمین۔

۳۔ شَرَسَ ـ شَرْسًا الناقةَ: اونٹنی کو مہار سے کھینچنا۔

۴۔ الشَرْساء: سفید پتلا بادل۔ الشِرَاس: سریش۔ الشَرِيس (ح): شیر۔

۵۔ شَرْسَفَ شَرْسَفَةً: بد خلق ہونا۔ الشُرْسُوف ج شَرَاسِيف (ع ا): پیٹ کے اوپر پسلی کا کنارہ، بندھا ہوا اونٹ، سختی، مصیبت۔

○ شردق: تَشَرْدَقَ: غلط طور پر نوالہ نگلنا، گلا گھٹ کر مرجانا۔

○ شرذم: تَشَرْذَمَ: دندانے پڑ جانا، نوکیلے کونوں والا ہونا، کٹا پھٹا ہونا۔

○ شَرِسَ ـ شَرَسًا و شَرَاسَةً: آوارہ، برا، بغض پرور، کینہ جو، بد باطن، شرارتی، شرانگیز، بدمزاج، تند خو، کم آمیز، جھگڑالو، چڑچڑا، تنک مزاج ہونا۔ شَرِس و شَرِيس: آوارہ، برا، بغض پرور، کینہ جو، شرارتی، شرانگیز، بدمزاج، تندخو، کم آمیز، جھگڑالو، چڑچڑا، تنک مزاج، جنگلی، ظالم، سفاک، سخت غضبناک، غضبناک۔ شَرَاسة و شَرَس: بداعمالی، شرارت، ضرر رسائی، بد طینتی، فسق و فجور، برائی، عناد، بغض، بد باطنی، کینہ، کمینگی، گھٹیا پن، رذالت، کم آمیزی، تندخوئی، چڑچڑا پن۔

شرش: الشَرْشَفُ جمع شَرَاشِف: پلنگ پوش (فارسی لفظ)(bed sheet)۔

شرص: شَرَصَ ـ شَرْصًا هُ: کو کھینچنا۔ ـ و شَرَّصَهُ بكلامِه: کو گالی دینا۔ الشَرْص (مص): سختی، کھردرا پن، اکھڑ پن۔ الشِرْص ج شِرَاص و شِرْصَة: کنپٹی کے پاس بال گرنے کی جگہ۔

○ شَرَّشَ: جڑ پکڑنا۔ شِرْش جمع شُرُوش: جڑ۔ شِرْشُ اللبن: دودھ یا دہی کا پانی۔ شَرْشِير: جنگلی بطخ، مرغابی۔ شَرَاشِر: روح، خود، ذات، طبیعت (شخص کی)۔

شرط: ۱۔ شَرَطَ ـ شَرْطًا عليه في بيع و نحوه: سے پر شرط لگانا۔ شَارَطَهُ: ایک دوسرے سے شرط باندھنا۔ سے کسی معاملہ میں کچھ کرنے کا عہد کرنا۔ تَشَرَّطَ: خود پر خواہ مخواہ قیود لگانا۔ ـ في العمل: کام تندہی سے کرنا۔ تَشَارَطَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگانا۔ تَشَارَطُوا على الشيء: پر قائم رہنا، پر عمل کرنا۔ إشْتَرَطَ له كذا: کے لئے کوئی بات لازمی قرار دینا۔ الشَرْط (مص) جمع شُرُوط: پابندی۔ (الشرطُ أَمْلَكُ عليك أم لك: یعنی شرط شرط لگانے والے کو شرط کی پابندی کا اختیار دیتی ہے، خواہ اس کے حق میں ہو یا خلاف۔ عند النحاة: شرط: کسی کام کے دوسرے کام کے ساتھ وقوع کی ترتیب جیسے: إن زرتني زرتك: اگر تم مجھے ملنے آؤ گے تو میں بھی تمہیں ملنے آؤں گا۔ اور "ادرس تحفظ" پڑھو تا کہ یاد رکھ سکو۔ ـــ الشُرْطَة: شرط۔ الشَرِيطَة ج شرائط: شرط۔

۲۔ شَرَطَ ـ شَرْطًا الجلدَ: جلد میں نشتر لگانا۔ شَرَّطَ الجلدَ: جلد میں نشتر لگانا۔ الشريط جمع شُرُط: مشروط۔ الشَرِيطَة جمع شَرَائِط: پھٹے ہوئے کان والا اونٹ۔ المِشْرَط و المِشْرَاط و المِشْرَطة ج مَشَارِط و مَشَارِيط: نشتر۔

۳۔ شَرِطَ ـ شَرَطًا: کسی بڑے کام میں پڑنا۔ أَشْرَطَ نَفْسَهُ أو مالَهُ في امر: کسی امر میں جان و مال کو پیش کرنا۔ ـ الإبلَ: فروخت کرنے کے لئے اونٹ کو نشان لگا کر علیحدہ کرنا۔ ـ نفسَهُ لكذا: کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا، آمادہ ہونا۔ ـــ إليه رسولاً: کی طرف جلدی سے قاصد بھیجنا۔ الشَرَط (مص) ج أشراط: علامت، چیز کا شروع۔ الشُرَط: میدان کارزار میں سب سے پہلے اترنے اور جان کی بازی لگانے والا فوجی دستہ۔ الشُرْطَه و الشُرْطِي۔ شُرَط کا واحد: پولس والا۔

۴۔ شَرَّطَ الشيءَ: کو باندھنا، مضبوط کرنا۔ الشريط جمع شُرُط: کھجور کی بٹی ہوئی رسی، تار، جیسے: شريط الكهرباء: بجلی کا تار۔ شريط التلفراف: ٹیلیگراف کا تار وغیرہ۔ الشريطة جمع شرائط: ربن (بالوں کو باندھنے کے لئے) ڈوری، پتلا فیتہ، لڑی و لیس وغیرہ جن سے کپڑوں کی آرائش کی جاتی ہے۔ الشِرْطة ج شَرَاطِيط: کپڑے کا ٹکڑا۔

۵۔ أَشْرَطَ بالشيء و فيه: کو ہلکا سمجھنا اور شرط لگانا۔ إسْتَشْرَطَ المالُ: مال کا درستی کے بعد خراب ہونا۔ الشَرَط جمع أَشْرَاط: گھٹیا، کمینہ، کنجوس۔ الشَرَط جمع أَشْرَاط: گھٹیا حقیر مال، چھوٹے چھوٹے مال۔ الأشراط: رذیل لوگ، اشراف (ضد)۔ شُرْطَة كل شيء: عمدہ و بہترین چیز۔ أَشْرَطُ الناس: رذیل ترین لوگ۔

۶۔ الشَرِيط ج شُرُط: عورت کی خوشبو وغیرہ رکھنے کی ڈبیہ۔

۷۔ شَرْطَنَهُ: کو ترقی دے کر پادری بنانا، آج کل یوں کہا جاتا ہے: (كَهَّنَهُ و سامَهُ كاهِنًا)۔ الشَرْطونية: پادری بنانا Ordination۔

○ شَرَطَ ـ شَرْطًا ه: کو چیرنا، پھاڑنا، کو چیر دینا، کو چھیلنا، چھیل کر اتارنا، کریدنا، چاک کرنا۔ ـ على ه: پر شرط یا فرض کے طور پر کچھ عائد کرنا، کے لئے

کچھ مشروط کرنا۔ ـــ ہ: کی صاف صاف شرط کرنا۔ شَرَّط ہ: کو چیر پھاڑ کر چیتھڑے چیتھڑے یا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کو چیرا دینا، چھیلنا، کریدنا۔ شَارَطَ: باہمی شرائط طے کرنا، ایک معاہدہ کرنا۔ ـــ ہ: کے ساتھ شرط لگانا، بدنا یا باندھنا۔ تَشَرَّطَ: سخت شرطیں عائد کرنا۔ تَشَرَّط فی عمله: اپنے کام میں توجہ صرف کرنا، اپنا کام محنت سے سرانجام دینا۔ اِشْتَرَطَ علی ہ: پر کچھ شرط یا فرض کے طور پر عائد کرنا، پر کچھ مشروط کرنا۔ ـــ ہ: کی صاف صاف شرط کرنا۔ اُشْتُرِطَ لِ: کے لئے بنیادی یا اولین شرط ہونا۔ شَرْط جمع شروط: چیر (کھال میں) لمبا کٹ، شگاف، شرط، شرط لازم، (قانون کی) دفعہ (معاہدہ کی)، شق (تمہیدی) شرط۔ شَرْطًا أن، بشرطِ، علی شرطِ أن، علی شَرِيطةِ: اس شرط پر کہ من دون شرطٍ، (بدون) شرط: بلاشرط۔ بلاشرطٍ أو قيد: بلاشرط، غیر مشروط۔ شرط الخيار: (کسی ٹھیکہ، معاہدہ، تجارتی معاملہ، ذمہ داری سے پیچھے ہٹنے کے حق کی شق)۔ اشراط الساعة: علامات قیامت۔ شَرْطِي: مشروط۔ جملہ شرطية: شرطیہ جملہ۔ شَرْطِية: ٹھیکہ، معاہدہ۔ شَرْطة جمع شُرَط: جنبش، لکیر، نشانِ الحاق (hyphen)، ڈیش (dash)۔ شُرْطَة: پولیس، پولیس والے، سپاہی۔ دار الشُرطة: پولس سٹیشن، تھانہ۔ تقرير الشرطة: پولیس رپورٹ۔ شُرْطِي و شُرَطي جمع شرطيون: پولیس مین، آفیسر۔ شَرِيط جمع شَرَائِط و أشْرِطة: بینڈ، ربن، ٹیپ، ڈوری، رسی، تسلی، طناب، لائن، تسمہ، فیتہ، بٹا ہوا ڈورا، گندھے ہوئے بال، کیکری (chevron)، فیتی، فیتہ، تمغہ کاربن، سروس ربن، (ریلوے) لائن، فلم کی پٹی film strip فلم۔ شريط سينمائي: (میکنیک) ٹیپ۔ شريط مُصَغَّر: مائکروفلم۔ شريط القياس: ماپ کی ٹیپ۔ شريط ناطِق جمع شَرائِط ناطِقة: ساؤنڈ فلم، بولتی فلم، ساؤنڈ ٹریک، میکنیک (مقناطیسی) ٹیپ۔ شَرِيط النار: فیوز (fuse) دودة الشريط: tapeworm مَشْرَط: پروگرام۔ مِشْرَط جمع مَشارط: نشتر۔ اشتراط جمع اشتراطات: شرط۔

شرع: ۱۔ شَرَعَ – شَرْعًا للقوم: قوم کے لئے قانون بنانا۔ ـــ لهم الطريق: کی رہنمائی کے لئے راستہ پر چلنا یا اس کو ظاہر کرنا۔ کہتے ہیں: شَرَعَ اللّٰهُ لنا كذا بِشَرْعِه: اللہ تعالیٰ نے اپنی شرع سے یہ ظاہر اور واضح کیا۔ ـــ الرجُلُ: حق کو ظاہر کرنا، باطل کو مٹانا۔ شَرْعًا و شُرُوعًا الطريقُ: راستہ کا واضح ہونا۔ شَرَّعَ و أَشْرَعَ الطريقَ: راستہ کو ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ اِشْتَرَعَ الشَرِيعَةَ: قانون بنانا۔ الشَرْع (مص): شریعت۔ کہتے ہیں: شَرْعُكَ ما بلَّغَكَ المحلَّ: تمہیں اتنا زادراہ کافی ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے۔ مراد آسان پر قناعت کرنی چاہیئے۔ ـــ والشِرع و الشَرَع: مثل، برابر۔ کہتے ہیں: الناس في هذا شرعٌ واحِدٌ: لوگ اس میں برابر ہیں۔ هم في هذا شرعٌ کا بھی یہی معنی ہے۔ دو ہوں تو کہیں گے: هما شِرعان وہ دونوں برابر ہیں۔ الشِرْعَة ج شِرَع و شَرْع و شِرَع و شِرَاع: شریعت، عادت، مثل۔ کہتے ہیں: هذه شِرعة هذه: یہ اس جیسی ہی ہے۔ الشَرِيعَة جمع شَرَائِع: اسلامی قانون، خدائی احکام، ضابطہ۔ الشَرْعيّ: شرع کے مطابق، شرع پر منطبق (کوئی عمل وغیرہ)۔ الإبن الشرعي: شرعی بیٹا جسے کوئی شخص اپنا بنا لے اور اسے اپنے اصل بیٹے کا درجہ دے۔ المشرُوع: جائز، جسے شرع جائز قرار دے۔

۲۔ شَرَعَ – شَرْعًا البيتُ: گھر کا لب سڑک ہونا۔ ـــ البابَ إلى الطريق: دروازہ کو راستہ کی جانب کھولنا۔ ـــ شَرْعًا و شُرُوعًا فلانٌ علينا: ہمارے قریب ہونا اور ہماری طرف جھانکنا۔ أَشْرَعَ بابَه إلى و على الطريق: دروازہ راستہ کی طرف کھولنا۔ الشارع جمع شَوَارع: عام گزرگاہ، بہت آمد و رفت والی سڑک۔ بيتٌ شارِع: سڑک کے قریب واقع مکان۔ الشوارع من النجوم (فلك): ڈوبنے کے قریب ستارے۔ الشريعة جمع شَرَائِع: دہلیز، چوکھٹ۔

۳۔ شَرَعَ – شَرْعًا و شُرُوعًا في الماء: پانی میں گھسنا یا پانی کو چلو سے پینا۔ ـــ الوَارِدُ: پانی کو منہ لگا کر پینا۔ ـــ الماشِيَةَ: مویشی کو پانی پر لانا۔ ـــ الأمرَ: کام شروع کرنا۔ ـــ في الأمر: کام میں مشغول ہونا۔ ـــ بفلان: کسی کو پانی پر لانا۔ ـــ يضربُ: کا مارنے لگنا۔ شَرَّعَ و أَشْرَعَ ہُ في الماء: کو پانی میں داخل کرنا۔ الشِرْعَة جمع شِرَع و شَرْع و شِرَع و شِرَاع: پانی کی جانب راستہ۔ الشُرَّع و الشُرُوع: کہتے ہیں: إبلٌ شُرَّع و شُرُوع: پانی میں گھسے ہوئے اونٹ۔ الشَرِيعَة ج شَرَائِع: کنارہ دریا پر پینے والوں کا گھاٹ۔ المَشْرَع و المَشْرَعَة و المَشْرُعَة جمع مَشارِع: پانی کا گھاٹ۔ الامرَ المُشْرُوع: وہ کام جو آپ نے شروع کیا ہو۔

۴۔ شَرَعَ – شَرْعًا و شُرُوعا الرِمَاحَ فَشَرَعت هي: نیزوں کو سیدھا کرنا تو ان کا سیدھا ہو جانا۔ أَشْرَعَ عليه الرمحَ: نیزہ کو کسی کی طرف سیدھا کرنا۔ الشَارِع م شارِعَة جمع شُرَّع و شُرُوع و شَوَارِع (فا): رماح شارعة و شَوَارِع: سیدھے کئے ہوئے نیزے۔ الشِراع جمع أَشْرِعَة و شُرُع: کمان کی تانت۔ الشُرَاعِي من الرماح: لمبا نیزہ جو شُراع نامی شخص سے منسوب ہے، جو نیزے بنایا کرتا تھا۔ الشَرْعَة و الشِرْعَة ج شِرَع و شَرْع و شِرَاعٌ: کمان کی تانت: تار یہ بھی کہتے ہیں: ضربوا على الشَرَع: انہوں نے تانت کو بجایا۔ الشِرْع: سارنگی کے تار۔ جوتے کا تسمہ۔ المشروع: سیدھا کیا ہوا۔

۵۔ شَرَعَ – شَرْعًا الشيءَ: چیز کو بہت اونچا کرنا۔ ـــ الحبلَ: رسی کھول کر اس کے دونوں کناروں کو کڑے میں ڈالنا۔ شَرَّعَ السفينةَ: کشتی میں بادبان لگانا۔ ـــ الحبلَ: رسی کی گرہ کھولنا۔ أَشْرَعَ الشيءَ: کو بہت اونچا کرنا۔ الشِراع جمع أَشْرِعَة و شُرُع: ہر نصب کی ہوئی اور اٹھائی ہوئی چیز۔ بادبان اونٹ کی گردن۔ کہتے ہیں: رجلٌ شِراعُ الانف: لمبے بانسے کی ناک والا۔ الشِرَاعِي من الإبل: لمبی گردن والا اونٹ۔ الشَرْعَة جمع أَشْرَاع: کشتی۔ الشِرْعَة جمع شِرْع و شَرْع و شِرَع و شِرَاع: بھٹ، تیتر، شکار کرنے کا جال۔ أنف أَشْرَع: لمبے بانسے کی ناک۔ المُشْرَّع من البيوت: اونچا مکان۔

۶۔ الشَرَاعَة: شجاعت، بہادری۔ الشَرَّاع: عمدہ کتان بیچنے والا۔ الشريع: بہادر، شجاع، عمدہ کتان۔ ـــ من الليف: درخت خرما کے سخت چبھنے والے کانٹے۔ المِشْرَع (مو): گھڑی کے رقاص (pendulum) جیسے رقاص والا آلہ، موسیقی جو موسیقی بن کر تیز حرکت ظاہر کرتا ہے۔

۷۔ شَرْعَبَ الاديمَ: چمڑے کو لمبائی میں کاٹنا۔ الشَرْعَب: لمبا، طویل۔ الشَرْعَبِيّ: ایک قسم کی چادر، خوبصورت جسم کا لمبا آدمی۔

○ شَرَعَ – شَرْعًا و شُرُوعًا في: میں داخل ہونا۔ (في/ب) سے شروع کرنا، آغاز کرنا شرع يفعل: کرنے لگنا۔ ـــ ہ: (اسلحہ وغیرہ) کو (علی) کسی کی

طرف کرنا یا اس کا رخ کسی کی طرف کرنا؛ ـــ ہ: کو کھولنا؛ ـ ہ: (سنگین) کو۔ (علی): (رائفل) پر لگانا۔ ـ ہ: (قوانین) کو رائج کرنا، وضع کرنا، بنانا۔ ـ ہ: (قوانین) وضع کرنا، بنانا۔ (ل) کے لئے۔ شرع مشروعا: کوئی سکیم بنانا۔ شَرَّع (ہ): ہتھیار کا نشانہ۔ (علی) کی طرف کرنا۔ شرّع: قانون سازی کرنا۔ أَشْرَع ہ: ہتھیار نکال کر (علی) کی طرف کرنا یا اس کا رخ کی طرف کرنا۔ أَشْرَع عينيه إلى: کو ایک نظر دیکھنا، پر سرسری نظر ڈالنا۔ أَشْرَع قَلَمَهُ: اپنی قلم نکالنا یعنی لکھنے کے لئے تیار ہونا۔ إِشْتَرَعَ ہ: قوانین کو رائج کرنا، وضع کرنا، بنانا۔ ـــ ہ: قوانین، مقرر کرنا یا دینا (ل) کیلئے یا کو، قوانین وضع کرنا (ل) کیلئے۔ الشرع: اسلامی قانون۔ شَرْعًا و فرعًا: مکمل حق کے ساتھ، اچھے مقصد کے ساتھ، کے حق کے طور پر۔ شَرْعِيًا: قانونی طور پر، قانون کی نظر میں، جائز طور پر۔ الطب الشرعي: عدالتی طب۔ القضاء الشرعي: شریعت پر مبنی عدالتی اختیار۔ المحاكم الشرعية: مذہبی عدالتیں۔ شَرْعِيَّه: قانونی استحقاق، قانونی کی مطابقت، جائز حق، جواز۔ شِرْعَة: قانون۔ الشِرْعَة: شریعت، اسلامی قانون۔ شِرَاع جمع شُرُع و أَشْرِعة: بادبان، خیمہ۔ شِراعي: بادبانی۔ سفينة شِرَاعية: بادبانی کشتی۔ طَائِرة شِرَاعِية: بے انجن طیارہ (glider)۔ شَرَّاعَة: جھرد کہ، دروازہ میں جھانکنے کا سوراخ۔ شَرِيعة جمع شرائع: باؤلی، باولی کا راستہ، قانون۔ نهر الشريعة: دریائے اُردن۔ مشْرَعَة جمع مشارع: پانی پینے کی جگہ۔ تشريع: قانون سازی۔ سلطة التشريع: قانون سازی کا اختیار، قانون سازی، مجلس قانون ساز، مقننہ۔ تشريعي: قانون ساز۔ الجَمْعِيَّة التشريعية: قانون ساز اسمبلی۔ دورة تشريعية: قانون سازی کا عرصہ، یا اجلاس۔ السُلطة التشريعيه بمعنى سلطة التشريع۔ تثنية الاشتراع: حضرت موسیٰ کی پانچویں کتاب۔ إِشْتِرَاعي: قانون سازی کا۔ شارِع: قانون ساز، قانون دینے والا جمع شارعون۔ شَارِع جمع شَوارِع: گلی، سڑک۔ شارع رئيسي: بڑی سڑک شاہراہ، عام گزرگاہ، شارع عام: عام گزرگاہ، شارع عام۔ مشروع: جائز، قانونی، قانون کے مطابق، جائز حقدار۔ مشروع جمع مشروعات، و مشاريع: پلان، پراجیکٹ، سکیم، ڈیزائن، کارِ عظیم، ذمہ داری۔

مَشْرُوعُ قانون: بل، مسودہ قانون۔ مشروعية: قانونی استحقاق، جواز۔ مُشَرِّع جمع مُشَرِّعُون: قانون ساز، قانون دینے والا۔ مُتَشَرِّع: قانون ساز، قانون دینے والا، ماہر قانون، فقیہ۔ مُشْتَرِع جمع مُشْتَرِعون: قانون ساز، قانون دینے والا، ماہر قانون، فقیہ۔

شرف: ۱۔ شَرُف ـ شَرَافَةً و شَرَفًا: شریف ہونا، بلند رتبہ والا ہونا، دین و دنیا میں بلند مرتبہ کا حامل ہونا۔ ـ شَرُفَاهُ: پر شرف میں غالب آنا، صفت مفعولی: مَشْرُوف۔ شَرَّفَ ہُ: کو بزرگی دینا، کی عزت کرنا۔ شَارَفَ ہُ: شرافت و بزرگی میں کسی پر فخر کرنا۔ تَشَرَّفَ الرجُلُ: شرف حاصل کرنا۔ ـــ بكذا: کو اپنے لئے باعث شرف جاننا۔ تُشُرِّف القومُ: قوم کے عزت دار لوگوں کا قتل ہونا۔ إِسْتَشْرَفَ الشاةَ: بے عیب بکری کو تلاش کرنا۔ الشَرَف (مص): بلندی و بزرگی، خاندانی شرافت، شریف۔ کہتے ہیں: هو شَرَفُ قومه و كَرَمُهُم: وہ اپنی قوم کا شریف اور کریم شخص ہے۔ الشَرَفَة: خاندانی شرافت۔ الشُرْفَةُ من المال: مال کا عمدہ حصہ۔ کہتے ہیں: أُعِدُّ زيارتكم شُرْفَةً: میں آپ کی آمد کو مہربانی اور شرف سمجھتا ہوں۔ الشَارِف (فا) جمع شُرَّف و شُرُف و شُرُوف و شُرُف: عنقریب صاحب شرف ہونے والا۔ الشَرِيف ج شُرَفاء و أَشْرَاف مونث شَرِيفَة جمع شَرَائف و شَرِيفات: صاحب شرف، عزت دار۔ ـــ عند المسلمين: خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والا۔ الخط الشريف: سلطان کے ہاتھ یا اسکے حکم سے لکھی جانے والی تحریر۔ نقيب الاشراف: نبی کریم کی اولاد کے نسب نامہ کا ریکارڈ رکھنے والا تاکہ کوئی غیر اس کا دعوی نہ کر سکے۔ الشَرِيفَة: کہتے ہیں: فلانٌ نفسُه شَرِيفَةٌ: وہ شریف النفس ہے۔ الأَشْرَف: اسم تفضیل ہے۔

۲۔ شَرَفَ ـ شَرْفًا الحائطَ: دیوار میں کنگرہ بنانا۔ شَرِف ـ شَرَفًا: بلند ہونا۔ شَارَفَ المكانَ: پر چڑھنا۔ ـــ الشيءَ: کو اوپر سے جھانکنا۔ شَرَّفَ البيتَ: گھر کے کنگرے بنانا۔ ـــ المكانَ: پر چڑھنا۔ أَشْرَفَ الشيءُ: بلند اور اونچا ہونا، کھڑا ہونا۔ ـ المكانَ: پر چڑھنا۔ ـ عليه: کو اوپر سے جھانکنا، پر مہربان و مشفق ہونا۔ تَشَرَّفَ البيتُ: گھر کا کنگرے والا ہونا۔ ـ المكانَ: پر چڑھنا۔ ـ الشيءَ: پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کسی چیز کو نظر اٹھا کر دیکھنا۔ ـ للشيءِ: کو جھانکنا۔ ـ على الشيءِ: کو اوپر سے جھانکنا۔ إِشْتَرَفَ: کھڑا ہونا۔ إِسْتَشْرَفَ: کھڑا ہونا۔ ـــ الشيءَ: پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کسی چیز کو نظر اٹھا کر دیکھنا۔ ـــ ہُ حقه: کا حق مار لینا۔ الشَرَف جمع أَشْرَاف: بلند جگہ، ناک۔ شرفُ البعير: اونٹ کا کوہان۔ أَشْرافُ الانسان: آدمی کے کان اور ناک۔ الشَرَفة: شُرَفات کا واحد: مثلث یا مربع برجیاں، جو شہر پناہ یا محل کے اوپر کے حصہ میں بنائی جاتی ہیں۔ الشُرْفَةُ من القصر ج شُرَف: محل کا چھجا، بالکونی۔ الأَشْرَف (ح): چمگادڑ۔ قصرٌ أشرف م شَرْفَاء ج شُرف: چھجوں یا برجیوں والا محل۔ رجُلٌ أَشْرَف: بلند کاندھے والا آدمی۔ منكبٌ أَشْرَف: بلند مونڈھا۔ الشَرْفاء: أَشْرَف کا مونث اور چھجوں (بالکونیوں) یعنی شُرَف کا واحد۔ ـ من الآذان: لمبا کان۔ حارِكٌ شَرِيف: مونڈھا۔ المُشْرِف من الاماكن: اونچی جگہ، اوپر سے جھانکنے کی جگہ۔ المُشْرَف جمع مَشَارِف: جھانکنے کی جگہ۔ مَشَارِفُ الارض: زمین کی بلند جگہیں۔ المُسْتَشْرِف: بلند، اونچا۔

۳۔ شَرُفَ ـ شُروفًات الناقةُ: اونٹنی کا بوڑھی ہونا۔ الشارِف من النوق جمع شُرَّف و شُرُف و شُرُوف و شُرُف: بوڑھی اونٹنی۔ سهمٌ شارِف: پرانا تیر۔ دَنٌّ شارف: پورانی شراب کا مٹکا۔ الشارِفَة جمع شارِفات و شَوارِف: الشارِف کا مؤنث: بوڑھی اونٹنی۔ الشَوارِف: شراب کے برتن

۴۔ شَارَفَ ہُ: کے قریب ہونا اور آنا۔ أَشْرَف على الموت: قریب المرگ ہونا۔ ـــ ت الخيلُ: گھوڑوں کا تیز دوڑنا۔ ـ لك الشيءُ: کا تمہارے لئے ممکن ہونا اور تمہاری طاقت میں ہونا۔ ـ ت نفسُهُ على الشيءِ: کا حریص ہونا، اور اسکی خاطر ہلاک ہونا۔ المَشْرَفي: عرب کے ان دیہات کی طرف منسوب جو مشارفُ الشام کے نام سے معروف ہیں۔ اسی سے ہے: السيوفُ المشرفية: اشرفی تلواریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نسبت یمن میں ایک جگہ کی طرف ہے مشارف الشام کی طرف نہیں۔

○ شَرُف ـ شَرَفًا و شَرَافَةً: خاندانی، شائستہ، شریف، عالی نسب، امیرزادہ، مشہور، نامور، ممتاز، سربرآوردہ، بلند رتبہ ہونا۔ شَرَّفَ ہُ: (کو) شریف، عالی نسب، امیر زادہ، مشہور، نامور، ممتاز، سربرآوردہ بنانا، کو سرفراز کرنا، نواب بنانا، ممتاز بنانا، ممتاز کرنا، کی عزت کرنا، کو اعزاز عطا کرنا۔ ہ (ب): کا، کو شرف عطا کرنا

شَارَفَ هُ: کیساتھ شرف اور عالی نسبی وغیرہ میں
مقابلہ کرنا، ــــ ہ: کے قریب جانا، کے اتنا قریب آنا
کہ دیکھا جاسکے، کی زد میں ہر ہونا، کو اوپر سے دیکھ سکنا،
سے نظر میں آنا، کی نگرانی کرنا، پر تسلط قائم رکھنا، کی
نگہبانی کرنا۔ أَشْرَفَ: اونچا، لمبا، بلند ہونا۔ ــــ
علی: سے کہیں بلند ہونا، سے اونچا ہونا، کو اوپر سے
دیکھ سکنا، سے بڑھنا یا اونچا ہونا، سے نظر میں آنا،
(کھڑکی یا دروازہ وغیرہ کا) کی طرف کھلنا، یا اسکا اس
کی طرف رخ ہونا، میں تماشائی ہونا، میں تماشا دیکھنا،
دیکھا کرنا، (کی) نگرانی کرنا، اوپر سے دیکھنا، کا انتظام
کرنا، پر کنٹرول کرنا، کا اہتمام کرنا، کو چلانا، کا نظم ونسق
کرنا، کا نگران ہونا، کے قریب ہونا، کو کرنے کو ہونا۔
تَشَرَّفَ بِ: سے مشرف ہونا، کا اعزاز ہونا۔ اِسْتَشْرَفَ
الـی: کی عزت کرنا، کو نظر اٹھا کر دیکھنا۔ شَـرَف:
مقام بلند۔ شَـرَف: بلند مرتبہ، شرافت، عالی نسبی،
امتیاز، عظمت، معزز عہدہ، حقیقی منزلت، عزت،
احترام، اعزاز، نیک نامی، شہرت وقار، بزرگی، جلال،
شان۔ علی شرفِهِ: کے اعزاز میں۔ شَرَفی:
اعزازی۔ شُرْفَة جمع شُرَفات و شُرُفات:
بالکونی، بوکس (box) (تھیٹر کا) فصیل کی دندانے دار
دیوار۔ شِرافة: (مکہ میں) شریف کا دفتر۔ شُرّافة
جمع شُرّافات: بالکونی، گیلری۔ شریف جمع
شُـرَفـاء و أَشْـرَاف: ممتاز، نمایاں، مشہور، نامور،
شریف، عالی نسب، امیر زادہ، شائستہ، محترم، نامی
گرامی، برتر، بہترین، پر جلال، سرفراز، عالی شان،
جلیل القدر، قابل احترام، آبرومند، باعزت، عزت
مآب، قابل عزت، (تجارت پیشہ) دیانت دارانہ،
شریف، نبی کریم کی اولاد کا لقب۔ الشریف: (عثمانی
سلطنت کے دور میں) مکہ کے گورنر کا لقب۔
مَشْـرَف: بلند جگہ وہ جگہ جہاں سے دور دور تک نظر
آئے، بلندی جمع مشـارف: بلندیاں، پہاڑیاں۔
تَشْرِيفة جمع تشریفات: اعزاز، اعزازات بخشی۔
تشـریفات: آداب محفل، مجلسی آداب، پروٹوکول۔
التشریفات الملکیة: سابق شاہ مصر کے معائنے اور
تشریف آوریوں اور استقبالوں کے متعلق اعلامیہ۔ رئیس
التشریفات: مہتمم تقریبات۔ کِسْوَةُ التشریفة:
پریڈ کی وردی۔ مَلابِـس التشریفة: جشن کا لباس۔
مُدِیـر التشـریفـات: چیف آف پروٹوکول، ناظم
استقبال سفراء۔ تشـریـفـاتی: تقاریب کا، ماہر
تقریبات، شاہی مہتمم، ناظم استقبال سفراء، بَـدْلَة
تشـریـفـاتیة: پریڈ یونیفارم۔ تـحـت اشرافِ:
کے زیر اہتمام، کے زیر سرپرستی۔ مُشْرِفٌ علی الموت:
قریب المرگ۔ مُسْتَشْـرَف: Terrace۔ کھلی
جگہ، بالاخانہ۔

شرق: ۱۔ شَرَقَ ـ شَـرْقًا الشاةَ: بکری کا کان لمبائی
میں چیرنا، صفت مفعولی: شَرْقاء۔ شَرِقَ ـ شَرَقًا
ت الشـاةُ: بکری کا لمبائی میں چیرے ہوئے کانوں
والی ہونا۔ اِنْشَـرَقَ ت الـقـوسُ: کمان کا پھٹنا۔
الشَـرْق ج أَشْـرَاق: پھٹن، شگاف، اس سے ہے:
مادخـل شَـرْقَ فمی شیءٌ: یعنی میرے منہ (کے
شگاف) میں کوئی چیز اندر نہیں گئی۔ و۔ الشِرق: دروازے
کی درز سے داخل ہونے والی روشنی۔ الشَـرّاق (ب):
کمرہ میں روشنی اور ہوا داخل ہونے کی درز یا شگاف
(عام زبان میں)۔ مِشْـرِيقُ البـاب: دروازہ کی
دراز جس میں سے طلوع آفتاب کے وقت دھوپ اندر
آجائے۔

۲۔ شَرَقَ ـ شَرْقًا المَرَقَ: شوربے کو اس کی گرمائی کے
ڈر سے خود ہی حلق کی طرف کھینچنا، (عام زبان میں)۔
شَرِقَ ـ شَـرَقًـا بریقه: تھوک سے گلا گھٹ جانا۔
عوام تَشَـرْدَقَ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا اسم
شَرْدُوقَة ہے۔ ــ الجرحُ بالدم: زخم کا خون سے
بھر جانا۔ ــ الموضعُ بأهلِه: جگہ کا لوگوں سے بھر
کر تنگ ہوجانا۔ ــ ت الارضُ: زمین کا پانی جاری
ہونے کے قابل نہ ہونا۔ أَشْـرَقَ هُ بـرِيـقـه: کو
اچھو لگنا۔ إِشْرَوْرَقَ إِشْرِيراقًا ت العينُ بالدمع:
آنکھوں کا آنسوؤں سے ڈبڈبانا، سرخ ہونا۔ الشَـرْقَة:
شَرَقَ کا اسم مرہ۔ کہتے ہیں: أَخَذَتْـهُ شَرْقَةٌ کاد
یـمـوت منها: اسے اچھو لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ
مرنے لگا۔ (عوام اسے شَهْـقَة بھی کہتے ہیں)۔
شَرْقَة: کالی کھانسی۔ المِشْـرَاق: جس سے اچھو لگتا
رہتا ہو۔

۳۔ شَرَقَ ـ شَرْقًا و شُرُوقًا ت الشمسُ: سورج کا
نکلنا، طلوع ہونا۔ ــ النخلُ: درخت خرما پر کھجور کا گدر
ہونا۔ شَـرَقَ شَـرْقًـا الثمرَ: پھل چننا، توڑنا۔
شَرَّقَ: مشرق کو روانہ ہونا، چمکدار اور خوبصورت چہرہ
والا ہونا۔ ــــ اللحمَ: گوشت کے پارچے بنانا یا
اسے دھوپ میں خشک کرنا۔ أَشْرَقَ ت الشمسُ:
سورج کا طلوع ہونا اور چمکنا۔ أَشْـرَقَ وجهُـهُ:
چہرے کا چمکدار ہونا۔ ــ المکانُ: جگہ کا سورج نکلنے
سے روشن ہونا۔ ــ الرجُلُ: طلوع آفتاب کے وقت
داخل ہونا۔ ــ ت الشمسُ المکانَ: سورج کا جگہ
کو روشن کرنا۔ ــــ النخلُ: درخت خرما پر کھجور کا گدر
ہونا۔ تَشَـرَّقَ: دھوپ میں بیٹھنا۔ الشَـرْق جمع
أَشْـرَاق (فلك): سورج نکلنے کی جگہ، سورج۔ الشَرَق
(مص): سورج۔ الشَـرْقَة: موسم سرماء میں دھوپ
میں بیٹھنے کی جگہ۔ ــ و الشَرِقَة: چڑھنے کے وقت کا
سورج۔ الشَـرِيق جمع شُرُق: طلوع کے وقت کا
سورج، خوبصورت لڑکا۔ التشـریـق (مص): نماز
عید۔ أیام التشریق: عید الضحٰی کے بعد تین دن جن
میں گوشت خشک کیا جاتا ہے۔ الشَـارِق (فا) جمع
شُـرُق: نکلتا ہوا سورج، سورج کے سوا ستاروں پر بھی
اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ (کہتے ہیں: لا أکلّمك ماذرّ
شـارِق: میں تم سے بات نہیں کروں گا جب تک کوئی
طلوع ہونے والا طلوع ہوتا رہے گا، پہاڑ وغیرہ کا
مشرقی پہلو۔ الـمَشْـرِق و الـمَشْرَق و المَشْرُق
جمع مَشَارِق: سورج نکلنے کی جگہ یا سمت۔ المَشْرِقان
و المغرِبان: موسم گرما اور سرما کے مشرق۔ المَشَارِق
والـمَـغـارِب: سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کی
مختلف جگہیں کیونکہ سورج سال کے اختتام تک ہر روز
ایک جگہ طلوع ہوتا ہے اور ایک دوسری جگہ غروب ہوتا
رہتا ہے۔ الـمَشْـرِقة و المَشْرَقة والمَشْرُقة و
المِشْراق و المِشْرِيق: سردیوں میں دھوپ میں
بیٹھنے کی جگہ۔ المُسْتَشْرِق: مشرقی زبانوں، آداب
اور علوم کا ماہر۔ اسم استشراق ہے۔

۴۔ شَرِقَ ـ شَـرَقًـا الدم فی عینه: آنکھ میں خون
ظاہر ہونا۔ ــ لَونُهُ: شرم سے رنگ سرخ ہونا۔ شَرِقَ
ت عینه: کی آنکھ کا سرخ ہونا۔ ــ الشیءُ: چیز کا
مخلوط ہونا۔ ــ ت الشمسُ: سورج کا ڈوبنے کے
قریب ہونا۔ اور اس کے رنگ میں مٹیالہ پن اور سرخی کا
مخلوط ہونا۔ شَـرَّقَ الشـیءَ بـالزعفران: چیز کو
زعفران میں رنگنا۔ أَشْـرَقَ الثوبَ فی الـصـبغ:
کپڑے کو گہرا رنگ دینا۔ إِشْرَوْرَقَ إِشْرِيراقًا ت
العین بالدمع: آنسو سے آنکھ کا سرخ ہونا۔

۵۔ شَـرَّقَ البـنـاءَ: عمارت کو چونے وغیرہ سے لیپنا۔
الشَّارُوق: چونے کا پلستر، راکھ ملا ہوا چونا۔ المُشَرَّق
(مفع): چونے وغیرہ سے پلستر کیا ہوا۔

۶۔ الشَـرَقْرَق و الشَرَقْرَاق و الشِرِقْراق و الشَقِرّاق
(ح): ایک چھوٹا پرندہ جسے الأخیل بھی کہا جاتا ہے۔
عوام اسے الشُقُرّق کا نام دیتے ہیں۔

○ شَرَقَ ـ شَـرْقًا و شُرُوقًا: (سورج کا) نکلنا، طلوع
ہونا؛ چمکنا، روشن ہونا، شعاعیں نکلنا۔ شَـرِقَ ـ
شَرَقًا اچھو لگنا۔ ــــ بدمعه: بمشکل آنسو روکنا، پانی
جانا۔ شَـرَقَ ـ ہ: کی چسکی لگانا، کو چیڑ چیڑ پی جانا،

کا سر پاگانا، کوٹ کنا، چوسنا۔شَرَّقَ: شرق کی طرف جانا۔ ــــ ہ: گوشت کے پارچے کر کے دھوپ میں سکھانا۔أشْرَقَ: سورج کا نکلنا، چمکنا، شعائیں نکالنا۔ تَشَرَّقَ: مشرقی ہونا، شرق کا باشندہ ہونا۔اِسْتَشْرَقَ: مشرقی ہونا، مشرقی انداز اختیار کرنا، مشرق کا مطالعہ کرنا۔شَرْق: طلوع آفتاب، مشرق۔ شرقاً: مشرقی جانب۔شرق الاردن: ماوراء اردن (۱۹۵۰ تک)۔الشرق الادنی: مشرق قریب۔الشرق الاقصٰی: مشرق بعید۔الشرق الاوسط: مشرق وسطٰی۔ شرْقِيّ: مشرقی۔الشرقیون: مسیحی چرچ کے مشرقی۔شرقی اوربا: مشرقی یورپ۔ شِرَاق: گودے دار چیز کی لکڑی، ہلکی لکڑی۔شُرُوق: طلوع آفتاب۔شَراقی: دریائے نیل سے سیراب نہ ہونے والی زمین۔شَرّاق: سیکشن پمپ کا حصہ part of suction pump۔المَشْرِقان: مشرق ومغرب۔مشارقُ الارض و مغاربُها یا المشرقان و المغربان: پوری دنیا۔فی المغربین و فی المشرقین: دنیا بھر میں۔مشرقی: مشرقی جمع مشارقة: مشرقی باشندہ۔المشرقیات: مشرقی مطالعے۔تشریق: مشرقی بنانا: گھریلو صنعت کی ترقی (اقتصادی) آزادی کے لئے سرگرمی۔ اِشراق: روحانی جلا (نوفلاطونیت سے ماخوذ تصوف)۔ الاشراقیون: روحانی جلا کے قائل۔الاستشراق: مشرقی مطالعے۔مُشْرِق: چمکدار، درخشان، منور، تابان۔مُسْتَشْرِق: مشرقی تہذیب کا حامل، مشرقی علوم کا ماہر۔شَرْقَرَق و شَرْقُراق: سبز کٹھ پھوڑا، ہُدہُد وغیرہ۔

شرك: ا۔ شَرِكَ ـَ شَرَكَاتِ النعلُ: جوتے کا تسمہ ٹوٹنا۔ شَرَّكَ و أَشْرَكَ النعلَ: جوتے میں تسمہ لگانا۔ الشَرَك جمع شُرُك و اشْرَاك واحد شَرَكة: جال، پھندا، راستہ پر جانور کے قدموں کے نشانات۔ الشِراك جمع أشْرُك و شُرُك: جوتے کا تسمہ جو پشت قدم پر پڑے۔ زمین پر گھاس کی ایک پٹی۔ الشُرَكى و الشُرَكيّ: تیز چال۔کہا جاتا ہے: لَطَمَهُ لطما شُرَكِيًّا: اس نے اسے جلدی جلدی پے درپے طمانچے مارے۔

شَرِكَ ـَ شَرْكًا و شَرِكًا و شِرْكَةً و شَرِكَةً ہُ: کا شریک ہونا۔ شَارَكَ ہُ و تَشَارَكَا: باہم شریک ہونا، ایک دوسرے کا حصہ دار بننا۔ أَشْرَكَ ہُ فی أمْرِه: کو اپنے کام میں شریک کرنا۔ ــــ باللّٰه: اللہ کے لئے شریک ٹھہرانا صفت: مُشْرِك و مُشْرِكِي: اسم شِرْک۔اِشْتَرَكَ الامرُ: کسی امر کا مشتبہ ہونا۔ ــــ القومُ فی کذا: میں باہم شریک ہونا۔الشِرْك جمع أشْرَاك: شَرِك و أَشْرَك کا اسم، شریک، حصہ، اسی سے ہے بِيعَ شِرْكٌ من دارِہ: اس کے گھر کا حصہ فروخت کیا گیا۔الشِرْكَة (مص): شریک کا حصہ، دو یا زائد حصوں کا اس طرح مل جانا کہ آپس میں تمیز نہ ہو سکے، عقد پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے۔ خواہ یہ اختلاط نہ ہو۔ جیسے شركة تجارية۔ الشريك جمع شُرَكاء و أَشْرَاك م شَرِيكَة جمع شَرَائِك: شریک۔ کہتے ہیں: اللّٰه لاشريكَ له: یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔المُشْتَرَك (مفع): وہ چیز جس میں دو یا زائد کی شرکت ہو۔ کہتے ہیں: طَرِيقٌ مُشْتَرَكٌ ورایٌ مُشْتَرَكٌ و امرٌ مُشْتَرَكٌ: مشترکہ راستہ، رائے یا معاملہ۔لفظٌ مُشْتَرَك: وہ لفظ جس کے کئی معانی ہوں، جیسے عین۔رجُلٌ مُشْتَرَكٌ: اپنے جی میں باتیں کرنے والا۔الاشتراکی: اشتراکیت کا تابع۔الاشْتِرَاكِيَة: سوشلزم، اشتراکیت، مذہب جس کا موقف معاشرہ کی شکل تبدیل کر کے وسائل پیداوار کو مشترکہ بنانا، دولت کے حصے تمام لوگوں کو دینا نیز مشترکہ کام اور اشیائے صرف کی سب میں تقسیم ہے۔

⊙ شَرِكَ ـَ شِرْكًا و شِرْكَةً و شَرِكَةً ہُ فی: کا میں شریک ہونا، کے ساتھ میں حصہ لینا، کا میں شریک، حصہ دار، ساجھی یا ہم صحبت ہونا۔شَارَكَ ہ یا فی: کا میں شریک ہونا، کے ساتھ میں شرکت کرنا، کا میں شریک حصہ دار ساجھی اور ہم صحبت ہونا۔ ــــ ہ: کا ہمصحبت ہونا، کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کے ساتھ حصہ داری میں شامل ہونا۔ ــــ ہ یا فی: کے ساتھ میں شراکت قائم کرنا، کے ساتھ میں شامل ہونا۔ ــــ ہ: کے ساتھ ہمدردی کرنا۔شاركه رأيه: کی رائے میں شریک ہونا۔أشْرَكَ ہُ: کو حصہ دار، شریک، ساجھی اور ساتھی بنانا۔ ــــ ہ فی: کو میں حصہ دینا۔ ــــ ہ ب: کسی چیز کو کے ساتھ جوڑنا، باندھنا، نتھی کرنا، کو میں شریک کرنا۔اشركه بالله: کسی کو اس کی تخلیق اور حکم میں ساتھی یا شریک بنانا۔اشرك باللّٰه: مشرک ہونا، بت پرست ہونا۔ تَشَارَكَ مع: کے ساتھ شراکت کرنا۔ ــــ فی: میں باہم حصہ دار ہونا۔اِشْتَرَكَ مع: کے ساتھ شراکت کرنا، تعاون کرنا۔ ــــ مع فی: کے ساتھ میں شرکت کرنا، کے ساتھ میں حصہ لینا۔ ــــ فی: میں ساتھ مل کر کام کرنا، میں اشتراک میں کام کرنا، میں ہم کاری کرنا، میں حصہ لینا، کا سبب بننا، میں ممد ہونا، میں چندہ دینا، کی تائید کرنا۔شِرْك: شرک، بت پرستی۔اهلُ الشرك: مشرکین، بت پرست۔ شَرَك جمع شُرُك و اشْرَاك و شِرَك: جال، دام، پھندا، گڑھا۔نَصَبَ له شَرَكا: کے لئے جال بچھانا۔شُرُك: جعلی، غلط، نقلی مصنوعی۔شِرْكَة و شَرِكَة: شراکت، رفاقت جمع شركات: شرکت، مستقل رفاقت، کمپنی، کارپوریشن، تجارتی فرم، ادارہ، کارخانہ کاروبار، تجارت۔شركةُ التامين: بیمہ کمپنی۔شركة تجارية: تجارتی کمپنی، فرم۔شركة الاذاعة: نشریاتی کارپوریشن۔شركةُ المُسَاهَمَة: مشترکہ سرمایہ کی کمپنی یا کارپوریشن۔شركة سِهَامية: مشترکہ سرمایہ کی کمپنی۔شركة الشركات: ٹرسٹ، اتحاد تجار۔شِرَاك جمع شُرُك و أَشْرُك: تسمہ۔ شريك جمع شُرَكاء و أشراك: حصہ دار، حصہ لینے والا، شریک، ساجھی، ساتھی رفیق، متحد، منسلک نیم وفاقی، حلیف، اتحادی۔ شریک مالک، شریک (جرم)، رفیق (جرم)۔شريكٌ مُوصٍ: خاموش حصہ دار Silent partner۔شُرَيك: نکوں والا کیک۔شَرِيكة: شریک کا مؤنث۔سیاسة التشريك: اتحادی پالیسی۔بالاشتراك مع: کے ساتھ مشترکہ طور پر، اتفاق رائے سے، کے ساتھ۔ اشتراك شهري: ماہانہ چندہ۔اشتراكي: اشتراکی، اشتراکیت پسند جمع اشتراکیون۔ اشتراكية: socialism, socialistic۔الامنُ المشتركُ: اجتماعی حفاظت۔ بلاغٌ مُشْتَرَك: مشترکہ اعلامیہ۔السوق المشترك: کامن مارکیٹ Common market۔الشُعُور المشترك: اتحاد، یکجہتی، بھائی چارہ کی سپرٹ۔

شرم: ا۔ شَرَمَ ـِ شَرْمًا الشيءَ: چیز کو پھاڑنا۔ ــــ الانف: ناک کا بانسہ کاٹنا۔ ــــ الثَرِيدَة: ثرید کو اطراف سے کھانا۔ ــــ لفلانٍ من ماله: کسی کو اپنے مال میں سے کچھ دینا۔ شَرِمَ ـَ شَرَمًا: کٹی ہوئی ناک والا ہونا صفت: أشْرَم م شَرْمَاء جمع شُرْم۔ شَرَّمَ ہُ: کو پھاڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تَشَرَّمَ و اِنْشَرَمَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پھٹنا۔ ــــ الصيدُ: شکار کا زخمی ہو کر بھاگ جانا۔الشَرْم (مص) جمع شُروم: خلیج۔الشَارِم (فا): تیر جو نشانہ کے پہلو کو چھید دے۔

۲۔الشَرْم جمع شُرُوم: سمندر کا گہرا حصہ، کھاڑی۔ (ن) ایک قسم کا درخت۔

○ شَرْم جمع شُروم: درز، شگاف، چاک، چیر، خلیج، کھاڑی۔
○ شَرْمَطَ ہ: کسی چیز کو چیتھڑے چیتھڑے کر دینا۔ شَرْمُوطَة جمع شرامیط: چیتھڑا، دھجی، ٹکڑا، پرزہ، رنڈی، کسبی، پھوہڑ عورت، طوائف۔

شرن: ۱۔ شَرِن - شَرَنًا الصخرُ: چٹان کا پھٹنا۔ الشَّرْن: شگاف۔
۲۔ الشَرَنْبُث و الشَرَنْبُذ: سخت موٹے ہاتھوں والا۔ (ح): شیر۔
۳۔ الشُرْنُبی (ح): ایک پرندہ۔
۴۔ شَرْنَفَ الزرعَ: کھیت کے بڑھے ہوئے پتوں کو چھانٹنا۔
۵۔ شَرْنَقَ الشیءَ: کو کاٹنا۔ الشَرَانِق: سانپ کی اتاری ہوئی کینچلی۔ — واحد شَرْنَقَة: ریشم کے کیڑے کا کویا ان کو فیالج (جس کا واحد فیلجه) بھی کہتے ہیں اور مرادف الصُّلَّج ہے، جس کا احد صُلَّجة ہے۔
○ شَرْنقة جمع شَرَانِق: ریشم کے کیڑے کا) کویا، (پیلے کا) خول (سانپ کی) کینچلی، سن کا ریشہ، سن کا بیج۔

شره: شَرِهَ - شَرَهًا و شَرَاهَةً إلى الطعام و عليه: کھانے کا بہت حریص ہونا، صفت شَرِه و شَرْهان۔ الشَرِه: ضرورت سے زیادہ کھانا کھانے والا اسم الشراهة ہے۔ الشَرْهاء من السنین: خشک سال۔
○ شَرِه - علی یا اِلی: (کھانے) کا بہت لالچی ہونا، -: لالچ سے کھانا، بھوکوں کی طرح کھانا، بسیار خور ہونا، کھاؤ، پیٹو، پُرخور ہونا۔ شَرَہْ و شَرَاهَةْ: پُرخوری، بسیار خوری، بھوکوں کی طرح کھانا، پیٹو پن، ندیدہ پن، حرص، طمع، لالچ، شیفتگی۔

شرو: ۱۔ الشَرْو و الشِرو: شہد۔
۲۔ الشِروال: دیکھو سروال۔

شری: ۱۔ شَرَی - شِراءً و شِرىً الشیءَ: کو خریدنا، بیچنا۔ — بنفسه عن قومه: پیش قدمی کر کے قوم کی طرف سے لڑنا، بادشاہ کے پاس قوم کی نمائندگی کرنا۔ شَارَی مُشاراةً و شِراءً الرجُلَ: سے خرید و فروخت کرنا۔ أَشْرَی القومُ: طاعتِ امام سے باہر ہو کر خارجیوں جیسا ہو جانا۔ تَشَرَّی تَشَرِّیًا: خارجی بن جانا۔ اِشتری الشیءَ: چیز خریدنا، بیچنا۔ الشِراء جمع أَشْرِيَة و الشِرَی: خریدنا، بیچنا۔ الشَرَی و الشَرَاة: مال کا عمدہ یا ردی حصہ۔ کہتے ہیں: إبلٌ شَرَاةٌ: عمدہ اونٹ۔ الشَرْوَی: مثل، مانند، مشابہ (واحد تثنیہ، جمع مذکر مونث سب کے لئے یکساں مستعمل ہے)۔ کہتے ہیں هو و هی و هما و هم و هن شَرْوَاك: وہ (سب) تم جیسے ہیں۔ نیز کہتے ہیں انه لا یملك شَرْوَی نقیر: وہ نقیر کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ یہ کم مائیگی کے بارے میں ضرب المثل ہے۔ نقیر کھجور کی گٹھلی میں گڑھے کو کہا جاتا ہے۔ الشَرِی من الخیل: اچھا، چنا ہوا گھوڑا۔
۲۔ شَرِیَ یَشْرَی شَرىً الرجُلُ: اصرار کرنا، غضبناک ہونا۔ — الفرسُ فی سیره: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ — الفرسُ فی لجامِه و البعیر فی زِمامِه: گھوڑے کا اپنی لگام اور اونٹ کا اپنی مہار کو کھینچنا۔ — زِمامُ الدابّة: لگام کا بہت ہلنا۔ — البرقُ: بجلی کا بہت چمکنا۔ — الشرُّ بینهم: لوگوں کے درمیان برائی پھیلنا۔ شارَی مَشاراةً و شِراءً الرجلَ: سے جھگڑا کرنا اور ضد سے کام لینا۔ اسی سے ضرب المثل ہے: المُشاراة و المُماراة تُفسدان الصداقة القدیمة: جھگڑے اور ہٹ دھرمی اور لڑائی سے پرانی دوستی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ مشاراة: جھگڑنا اور ضد کرنا ہے اور مماراة لڑنا۔ کہتے ہیں: فلانٌ لایشاری: فلاں شخص کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ أَشْرَی الزِمامَ: لگام کو ہلانا۔ — البرقُ: بجلی کا زور سے چمکنا۔ — الشیءَ: چیز کو جھکانا۔ — بینهم: لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا۔ تَشَرَّی تَشَرِّیًا: متفرق ہونا۔ تَشَارَی تَشَارِیًا الرجلان: ایک دوسرے پر غضبناک ہونا۔ اِسْتَشْرَی اِستشراءً الرجُلُ فی الامر: کسی معاملہ میں اصرار کرنا، غضبناک ہونا۔ — ت الامورُ: معاملات سنگین ہو جانا، مشکل ہو جانا۔ — الفرسُ فی سیره: گھوڑے کا تیز چلنا۔ اِشْرَوْرَی اِشْرِیْراءً: گھبرانا، مضطرب ہونا۔ الشُراة: خوارج۔ الشَرِیّ: بہت تیز رفتار گھوڑا۔ الشَرِیَّة: الشری کا مونث۔
۳۔ شَرَی - شِراءً و شِرىً اللحمَ او الثوبَ او نحوَهما: گوشت، کپڑے وغیرہ کو (سکھانے کے لئے) دھوپ میں رکھنا۔ شَرَّی اللحم او الثوبَ و نحوه: گوشت، کپڑے وغیرہ کو دھوپ میں رکھنا (سکھانے کیلئے)۔
۴۔ شَرَی - شِراءً و شِرىً ہُ: سے ٹھٹھا کرنا، کو رنجیدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے فَعَلَ به ما شراهُ: یعنی اس نے اسکے ساتھ وہ کیا جس نے اُسے رنجیدہ کر دیا۔
۵۔ شَرَی - شِراءً و شِرىً اللّٰهُ فلانًا: اللہ کا فلاں کو پتی کی بیماری میں مبتلا کرنا۔ شَرِیَ یَشْرَی شَرىً الجلدُ: جلد پر پتی اچھلنا۔ صفت شَرٍ۔ أَشْرَی الحوضَ: حوض بھرنا۔ الشَرَی (طب): پتی اچھلنے کی بیماری، خارش، کھجلی۔
۶۔ الشَرَاء: جانب، طرف۔ الشَرَی ج أُشْراء: پہاڑ، سڑک، جانب، طرف۔ (کہا جاتا ہے: دخلوا أشراء الحرَم: وہ حرم کے اطراف میں داخل ہوئے)، دریائے فرات کی طرف کا وہ علاقہ جہاں شیر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں هو كأسد الشری: وہ شری کے شیر کی مانند ہے۔ الشَرْیُ۔ واحد شَرْيَة (ن): اندرائن، حنظل۔ (کہتے ہیں: لفلان طعمان اَرْیٌ و شَرْیٌ: فلاں میٹھا بھی ہے کڑوا بھی ہے)، درخت خرما جو بیج سے اُگا ہو۔ الشَارِی جمع شُراة (ف): برق رُبا (lightning rod)۔ الشَرِیَّة: طریقہ، طبیعت۔ الشَرْیَان (ع ا): شَرَایین کا واحد: وہ اچھلنے والی رگ جس میں سرخ خون دورہ کرتا ہے۔ الشریان الرِئوِیّ (ع ا): وہ رگ جو خون کو دل سے پھیپھڑے میں منتقل کرتی ہے۔ الشِرْیَنات: جسم کی باریک باریک رگیں۔ المُشْتَرِی (فلك): ایک سیارہ کا نام۔ (ح): ایک پرندہ۔
۷۔ شَرْیَفَ الزرعَ: کھیتی کے بڑھے ہوئے ضرر رساں پتے چھانٹنا۔
○ شَرَی - شِرىً و شراءً ہ ب: کو کچھ قیمت لے کر فروخت کرنا۔ — ہ: کو خریدنا۔ — المتاعبَ و غیرها: مصائب و تکالیف کو خود عوت دینا۔ اشتری ہ: کو بیچنا، خریدنا۔ اِسْتَشْرَی: بدتر ہونا، زیادہ خراب ہونا، بگڑنا، ابتر ہونا۔ شِرًی جمع أَشْرِيَة: خریدنا، سودا، معاملہ۔ شِراء: خریدنا، فروخت۔ راغبُ الشراء: خریدنے کا متمنی۔ المقدرة علی الشراء یا قوةُ الشراء: قوت خرید۔ لا یملك شَرْوَی نقیر: اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ لا یُجدی شَرْوَی نقیر: یہ بالکل بے کار ہے۔ الحُمَّی الشَرَوِیة: پچھوا (جلد کی ایک بیماری)۔ اِشتراء: خریدنا۔ شارٍ: بیچنے والا، سیلز مین، خریدنے والا، گاہک۔ مُشْتَرٍ: خریدار، فروخت کندہ، گاہک۔ مُشْتَرَیات: خریدی ہوئی چیزیں۔

شزّ: شَزَّ - شَزَازَةً: بہت خشک ہونا۔ صفت شَزّ و شَزِیز۔

شزب: ۱۔ شَزَبَ - شَزُبَ - شَزْبًا و شُزُوبًا: کھردرا ہونا، لاغر ہونا اور خشک ہونا، صفت شَازِب جمع شُزَّب و شَوَازِب: کہتے ہیں رجل شاحبٌ

شازبٌ: رنگ بدلا ہوا، لاغر آدمی۔ شَزَّبَ الفرسَ: گھوڑے کو لاغر کرنا۔ الشَّـزِبَة: کمان جو نہ نئی ہو نہ پرانی۔ ـــ من الأُتن: دبلی پتلی گدھی۔ الشَّـزِيب جمع شُزُوب: ان گھڑ لکڑی، نئی نہ پرانی کمان۔

۲۔ تشازبَ القومُ على الماء وغيره: لوگوں میں سے ہر ایک کا پانی وغیرہ میں اپنے حصہ کے لئے انتظار کرنا۔ کہتے ہیں: هم متشازبون: ان میں سے ہر ایک پانی میں اپنے حصہ کا منتظر ہے۔ الشَّـزْبَةُ: اسم مرد۔ الشُّزبة: موقع فرصت۔ کہا جاتا ہے: مضت شُزْبَتُهُ: یعنی اس کا موقع جاتا رہا۔

۳۔ الشَّوْزَب: علامت، نشان۔

شزر: ۱۔ شَزَرَ ـ شَزْرًا الرجلَ و اليه: غصہ میں یا بیدلی سے کسی کی طرف ترچھی نظر سے دیکھنا۔ ـ فلانًا: دائیں بائیں سے نیزہ مارنا، نظر بد لگانا۔ ـ شَزْرًا الحبلَ: رسی بٹنا۔ شَازَرَ مُشَازَرَةً: بے دشمنی کرنا۔ تَشَزَّرَ: غضبناک ہونا۔ ـــ للقتال: آمادۂ پیکار ہونا۔ تَشَازَرَ القومُ: ایک دوسرے کو غصہ کی نظر سے دیکھنا۔ إِسْتَشْزَرَ الحبلَ: رسی بٹنا۔ ـــ الشيءَ: کو بلند کرنا، اونچا کرنا۔ ـ الحبلُ: رسی کا بٹنا۔ ـ الشيءُ: چیز کا اونچا ہونا۔ الشَّزْر (مصدر): کہتے ہیں: غَـزْلٌ شَـزْرٌ: دھاگا جو یکساں نہ ہو۔ الشَّـزَر والشُّـزْرَة: آنکھ کی سرخی۔ الأَشْـزَر: سرخ۔ عَيْنٌ شَزْرَاءُ: غصہ کی وجہ سے سرخ آنکھ۔

۲۔ أَشْزَرَهُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو ایسی مصیبت میں ڈالنا جس سے خلاصی کی راہ نہ ملے۔ الشَّزْر: سختی، دشواری۔

○ نظر اليه شَزْرًا: کی طرف کنکھیوں سے دیکھنا، کو شک وشبہ کی نظر سے دیکھنا۔ عَيْنٌ شَزْرَاء: کنکھیوں سے دیکھنے والی آنکھ، شک وشبہ سے دیکھنے والی آنکھ۔ نَظْرَةٌ شَزْرَاءُ: شک وشبہ کی نظر، مشتبہ نظر، شکی نگاہ۔

شزن: ۱۔ شَزِنَ ـ شَزَنًا الرجلُ: آدمی کا چست ہونا۔ تَشَزَّنَ تَشَزُّنًا و تَشْزِينًا الرجلَ: کو پچھاڑنا۔ ـــ الشاةَ: بکری کو ذبح کرنے کے لئے لٹانا۔ ـ للسفر: سفر کی تیاری کرنا۔ الشَّزْن: چوسر کھیلنے کا مہرہ۔ الشَّـزَن: طرف، جانب، دوری۔ الشُّزْن: طرف، جانب، چوسر کھیلنے کا مہرہ۔

۲۔ تَشَزَّنَ تَشَزُّنًا و تَشْزِينًا الشيءُ: چیز کا سخت ہونا، دشوار ہونا۔ ـ له في الخصومة: کے ساتھ جھگڑے میں درشتی سے پیش آنا۔ الشَّـزَن و الشُّزُن: سختی، زمین کی سختی۔ ـــ من العيش: زندگی کی تنگی وسختی۔ الشُّزُونَة: سختی۔

شزا: شَزَا ـ شَزْوًا: بلند ہونا۔

شسّ: شَسَّ ـ شُسُوسًا الشيءُ: چیز کا خشک ہونا۔ الشاسّ: لاغر، کمزور۔ الشَّسّ جمع شِساس و شُسُوس و شَسِيس: پتھر کی مانند سخت زمین۔

شسب: شَسِبَ ـ شَسُبَ ـ شَسْبًا و شُسُوبًا: خشک اور دبلا ہونا۔ صفت: شَاسِب جمع شُسُب الشِّسْب و الشَّسِيب من القسيّ: پتلی لکڑی والی کمان۔ الشَّسُوب من النوق: وہ اونٹنی جس کا بچہ جاڑے میں مر گیا ہو اور پھر وہ دودھ نہ دے۔

شسع: ۱۔ شَسَعَ ـ شَسْعًا و شُسُوعًا المنزلُ: منزل کا دور ہونا۔ صفت: شَسُوع جمع شُسُع و شاسِع۔ شَسِعَ ـ شَسَعًا الفرسُ: وہ گھوڑا جس کے سامنے کے اوپر نیچے کے دو دانتوں اور چار دانتوں اور کچلیوں کے مابین فاصلہ ہو۔ ـــ به: کو دور کرنا۔ أَشْسَعَ الشيءَ: کو دور کرنا۔ الشِّسْع جمع أَشْساع: تنگ زمین، جگہ کی طرف۔ کہتے ہیں: نزل بِشِسْعٍ من الوادي: یعنی وادی کے ایک طرف اترا۔ ادنى من الشِّسع: طرف سے زیادہ قریب۔

۲۔ شَسَعَ ـ شَسْعًا و شَسَّعَ و أَشْسَعَ النعلَ: جوتے کے لئے تسمہ بنانا۔ شَسِعَ ـ شَسَعَاتِ النعلُ: جوتے کا تسمہ ٹوٹنا۔ الشِّسع جمع أَشْسَاع: جوتی کا تسمہ، تھوڑا یا بہت مال۔ هو شِسْع مالٍ: وہ مال کا اچھا منتظم ہے۔

○ شاسِع: دور، دور دراز، چوڑا، بڑا، بہت (فاصلہ)، بہت بڑا، وسیع، عظیم (اختلاف)۔

شسف: شَسَفَ ـ و شَسُفَ ـ شُسُوفًا و شِسَافَةً و شَسَافَةً: خشک، لاغر اور دبلا پتلا ہونا۔ صفت: شاسِف و شَسِيف۔ الشِّسْف: خشک روٹی۔ الشَّسَف: کچی کھجور جسے چیر کر خشک کیا گیا ہو۔ الشَّسِيف: وہ شخص جس کا گوشت لاغری سے خشک ہونے لگا ہو۔

شصّ: ۱۔ شَصَّ ـ شُصُوصًا و شِصَاصًا الرجلُ: دور ہونا۔ کہتے ہیں: ما ادري اين شَصَّ: مجھے معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ ـــ ـ شَصًّا هُ عن كذا: کو سے منع کرنا، دور کرنا۔ أَشَصَّ الرجلُ: دور چلا جانا۔ ـ ه عن كذا: کو سے روکنا اور دور کرنا۔

۲۔ شَصَّ ـ شُصُوصًا و شِصَاصًاتِ الناقةُ: اونٹنی کا بہت تھوڑی دودھ والی ہونا۔ ـ ت المعيشةُ: گزران تنگ ہونا۔ أَشَصَّ ت الناقةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔ الشَّصُوص من النوق او الشياه جمع شُصُص و شَصَائِص و شِصَاص: تھوڑے دودھ والی اونٹنی یا بکری۔ سَنَةٌ شَصُوص خشک سال۔ کہتے ہیں: نفي اللّٰه عنك الشَّصَائِص اللہ تعالیٰ تم پر سے سختیوں کو ٹالے۔

۳۔ الشِّصّ جمع شُصُوص: مشاق چور۔ ـ والشَّصّ جمع شُصُوص: مچھلی پکڑنے کا کانٹا۔ اس کو سنارہ بھی کہتے ہیں۔

○ ششخان: جھری ڈالی ہوئی (بندوق کی نالی)۔ اسلحة الششخانة: آتشیں اسلحہ۔ مُشَشْخَن: جھری ڈالی ہوئی (بندوق کی نالی)۔

شصب: ۱۔ شَصَبَ ـ شُصُوبًا و شَصِبَ ـ شَصَبًا العيشُ: گزران کا تکلیف دہ ہونا۔ صفت: شَاصِب۔ ـ الامرُ: معاملہ کا سخت ہونا۔ ـــ المكانُ: جگہ کا قحط زدہ ہونا۔ أَشْصَبَ اللّٰهُ عَيْشَهُ: اللہ کی طرف سے کسی کی زندگی کو تکلیف دہ بنانا۔ الشَّصْب و الشَّصَب: خشکی۔ الشِّصْب جمع أَشصاب: سختی، خشک سالی۔ عيش شَصِبٌ: پر تکالیف زندگی۔ الشَّصِيبَة جمع شَصَائِب: سختی، خشک سالی۔

۲۔ شَصَبَ ـ شَصْبًا الشاةَ: بکری کا چمڑا اتارنا، بکری کی کھال اُتارنا۔ الشُّصُب کھال کھینچی ہوئی بکری۔

۳۔ الشِّصْب جمع أَشْصَاب: حصہ۔ الشَّصَّاب: ٹھگ، دھوکے باز، عیار، فریبی۔ الشَّصِيب: حصہ، مسافر۔ الشَّصِيبَة جمع شَصَائِب: کنویں کی گہرائی۔ الشصائب: پالان کی لکڑیاں۔

شصر: ۱۔ شَصَرَ ـ شَصْراً الثوبَ: کپڑے کی سلائی میں دور دور ٹانکے لگانا۔

۲۔ شَصَرَ ـ شَصْراً فلاناً بالرُّمح: کو نیزہ مارنا۔ ـ هُ الثورُ: کو بیل کا سینگ مارنا۔

۳۔ الشَّاصِر من الظباء م شاصِرة جمع شَوَاصر (ح): مضبوط اور حرکت کرنے کے قابل ہرن کا چھوٹا بچہ۔ الشَّصَر م شَصَرة جمع أَشصار (ح): مضبوط اور حرکت کرنے کے قابل ہرن کا چھوٹا بچہ۔ (ح): ایک چھوٹا پرندہ۔ ـــ والشوصَر من الظباء: بمعنی شاصر۔

شصا: ۱۔ شَصَا ـ شُصُوًّا و شَصِي يَشْصَى شَصِيًّا البصرُ: نگاہ کا پتھرانا۔ ـ السحابُ: بادل کا اونچا ہونا۔ ـــ ت القربةُ: مشک کا پانی سے بھر کر خوب تن جانا۔ ـ الميتُ: مردہ کے ہاتھ اور پاؤں کا اٹھ جانا۔ کہتے ہیں: شصا برجله: اُس نے اپنا پاؤں اٹھایا۔ أَشْصَى بصرَه: ٹکٹکی باندھنا۔

۲۔ الشَّصْو: مسواک، سختی، شدت۔

شَطَّ: ۱۔ شَطَّ ـ شَطًّا و شُطُوطًا: دور ہونا۔ ـــ فلاناً بفلان: پر ظلم کرنا، کو دور کرنا۔ ـــ ـ شَطَطًا: زیادتی کرنا، حق سے دور ہونا۔ ـ في سِلْعَتِه: چیز کی

مقررہ انداز سے آگے بڑھنا اور اسے بیش قیمت کرنا۔ ـــ علیه فی قوله و حکمه: پر ظلم کرنا۔ شَطَّطَ: زیادتی میں مبالغہ کرنا ـــ المرکبُ عند البحریة: جہاز کا ساحل کے قریب زمین میں اتنا دھنس جانا کہ اُسے وہاں سے ہٹانا ممکن نہ ہو۔ شَاطَّ هُ: حد سے تجاوز کرنے میں کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ اَشَطَّ اِشْطَاطًا و اشْتَطَّ اِشْتِطَاطًا: زیادتی کرنا اور حد سے آگے بڑھنا۔ حق سے دور ہونا ـــ علیه: پر ظلم کرنا۔ اسی سے ہے: فاحکم بیننا بالحق ولا تُشْطِط: یعنی حکم میں ظلم نہ کر۔ الشَّطّ جمع شُطُوط و شُطَّان: دریا یا سمندر کا کنارہ یا ساحل۔ ـــ جمع شُطُوط: کوہان کا پہلو۔ الشَّطَّة: اسم مرة۔ الشِّطَّة و الشَّطَاط و الشِّطَاط و الشَّطَاطَة: دوری۔

۲۔ رجُلٌ شاطّ م شاطّة: سڈول بدن کا آدمی۔ جاریة شَطَّةٌ: سڈول بدن کی متناسب الاعضاء لونڈی۔ الشَّطَاط و الشِّطَاط: خوش قامتی اور اعضاء کا تناسب۔

○ شَطَّ ـ شَطَطًا (فی): میں، کیساتھ افراط و تفریط سے کام لینا، مناسب حدود سے تجاوز کرنا، حد سے زیادہ، فزوں از حد، بہت زیادہ ہونا ـــ عن: سے منحرف ہونا، ہٹنا، تجاوز کرنا ـــ عن الموضوع: اصل موضوع سے ہٹ جانا، بھٹک جانا۔ اشتطّ فی: میں، کے ساتھ افراط و تفریط سے کام لینا، بہت دور تک چلا جانا، مناسب حدود سے بڑھ جانا، حد سے زیادہ، فزوں از حد، بہت زیادہ ہونا۔ شط جمع شُطُوط: کنارہ، ساحل، ساحل سمندر، ریتلا کنارہ، ریتلا ساحل۔ شطُّ العرب: عراق میں دجلہ اور فرات کے دریاؤں سے تشکیل پانے والے دریا کا نام، خلیج فارس پر اس دریا کے پار کا علاقہ۔ شَطَّة: کالی مرچ کی ایک قسم۔ شَطَط: حد سے فزوں، مناسب حدود سے بڑھا ہوا، حد یا ضرورت سے زیادہ، زبردستی چڑھائی، تجاوز، خلاف ورزی۔ شَطِيطَة: کالی مرچ کی ایک قسم۔ مُشِطّ: حد سے زیادہ، فزوں از حد، بہت زیادہ۔

شطأ: شَطَأَ ـ شَطْأً و شُطُوءًا: کنارہ یا ساحل پر چلنا۔ شَطَّأَ تَشْطِيئًا النهرُ: دریا کا دونوں کناروں پر بہنا۔ شَاطَأَهُ: ایک دوسرے کے ساتھ دریا کے کنارہ پر چلنا۔ اَشْطَأَ الوادی: وادی کا دونوں کناروں پر بہنا۔ کہتے ہیں: ملنا لوادی کذا فوجدنا مُشْطِئًا: ہم وادی کی طرف واپس آئے تو اس کو دونوں کناروں پر بہتے پایا۔ الشَّطْءُ جمع شُطُوء: کنارہ۔ الشَّاطِیء من النهر: جمع شَوَاطِیء و شُطْآن: دریا کا کنارہ: آپ کہتے ہیں: شَاطِیء الاودیه: وادیوں کا کنارہ۔ (اس کی جمع نہیں آتی)۔ ـ من البحر: ساحل سمندر۔

۲۔ شَطَأَ ـ شَطْأً و شُطُوءًا الدابةَ بالحمل: جانور پر بوجھ لادنا۔ ـ فلانًا: فلاں کو مغلوب کرنا۔

۳۔ شَطَأَ ـ شَطْأً و شُطُوءًا تِ الأُمّ بالولد: ماں کا بچہ گرانا (اسقاط حمل کرنا)۔ شَطَّأَ الزرعُ: کھیتی میں بالی آنا۔ اَشْطَأَ الزرعُ: کھیتی میں بالی آنا ـــ الشجرُ بغصونه: درخت کا ٹہنیاں نکالنا۔ الشَّطْءُ و الشَّطَأُ جمع اَشْطَاء: کھیتی کے پتے، درخت خرما کے پودے ـــ من الشجر: درخت کی جڑوں کے گرد نکلنے والی شاخیں۔

۴۔ اُشْطِئَ الرجُلُ: کوزکام ہونا۔ الشُّطْأَة: زکام۔

شطب: ۱۔ شَطَبَ ـ شَطْبًا الشیءَ: کسی چیز کو کاٹنا یا لمبائی میں پھاڑنا ـــ هُ و شَطَبَ فوقَهُ: پر لکیر کھینچنا۔ کہتے ہیں: شَطَبَ الکاتبُ العبارةَ: لکھنے والے کا عبارت قلمزن کرنا، پر خط تنسیخ پھیرنا۔ شَطَّبَ هُ: کے ٹکڑے کاٹنا۔ تَشَطَّبَ: ٹکڑوں میں کٹنا ـــ و اِنْشَطَبَ الماءُ و نحوه: پانی وغیرہ کا بہنا۔ الشَّطْب ج شُطُوب (مص): لمبا خوبصورت قد و قامت والا، درخت خرما کی نازک اور سبز شاخ۔ الشَّطْبَة: غلط عبارت پر کھینچی ہوئی لکیر۔ خط تنسیخ۔ (ح): اچھے گوشت والا گھوڑا؛ لمبی خوبصورت لڑکی۔ ـــ جمع شُطَب: تلوار ـــ من النخل: کھجور کی سبز شاخ۔ الشِّطْبَة: لمبی خوبصورت لڑکی۔ (ح): اچھے گوشت والا گھوڑا ـــ والشُّطْبَة و الشُّطَبَة جمع شُطَب: طریقہ یا تلوار وغیرہ کی دھار کا خط۔ الشَّطِيبَة جمع شَطَائِب: اونٹ کی کوہان کا لمبائی میں کٹا ہوا ٹکڑا۔ سَیْفٌ مُشَطَّب: دھاری دار تلوار۔ رجُلٌ مُشَطَّب: تلوار وغیرہ کی ضرب کے منہ پر نشان والا آدمی۔ سیفٌ مَشْطُوبٌ: دھاری دار تلوار۔

۲۔ شَطَبَ ـ شَطْبًا الرجُلُ: دور ہونا ـــ عنه: سے بے رغبت ہونا۔ ـ الرمحُ عن مقلته: نیزہ کا نشانہ خطا کرنا۔

۳۔ الشطائب: مختلف گروہ، شدائد، مصائب۔

○ شَطَبَ ـ شَطْبًا هـ: کو ٹکڑوں میں یا پٹیوں میں کاٹنا۔ ـــ هـ/علی: کو کاٹنا، قلمزن کرنا، منسوخ کرنا ـــ هـ/علی: کو مٹانا، محو کرنا۔ شَطَّبَ فی: میں چیرا دینا، کو لمبائی میں کاٹنا ـــ هـ/علی: کو کاٹنا، قلمزن کرنا، منسوخ کرنا ـــ هـ/علی: (رہن) منسوخ کرنا، چھوڑنا ـــ هـ (مد ...) (بہی کھاتے) میں لکھنا کا اندراج کرنا، کھاتے میں اندراج کرنا۔ علی: کو ختم کرنا۔ تشطيب الحساب: حساب میں اندراج۔ ساعة التشطيب: کرفیو curfew۔

شطر: ۱۔ شَطَرَ ـ شَطْرًا الشیءَ: چیز کو دو برابر حصوں میں کرنا ـــ بیت الشعر: شعر کا نصف حذف کرنا ـــ الناقةَ او الشاةَ: اونٹنی یا بکری کا نصف تھن دوہنا۔ ـ شُطُورًا تِ الناقةُ: اونٹنی کے تھن کے ایک حصہ کا لمبا ہونا ـــ بصرُهُ: ترچھا یا بھینگا دیکھنا۔ ـــ شُطُورَةً ت الناقةُ: اونٹنی کے تھن کے ایک حصہ کا لمبا ہونا۔ شَطَّر الشیءَ: چیز کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، چیز کے دو حصے کرنا۔ ـ الشعر: شعر کے ہر مصرعہ پر دوسرا مصرعہ بڑھانا ـــ الناقةَ و بالناقة: اونٹنی کے نصف تھن کو دوہنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا۔ شَاطَرَهُ مالَهُ: مال کو آدھا آدھا تقسیم کر لینا۔ الشطر (مص) جمع اَشْطُر و شُطُور: (چیز کا ایک) جز و نصف۔ شطرُ بیت الشعر: شعر کا ایک نصف۔ للناقة شطران قادمان و آخران و کلّ خِلْفَيْنِ شطرٌ: اونٹنی کے دو شطر اگلے پچھلے ہیں اور دونوں تھنوں میں سے ہر ایک شطر ہے۔ کہتے ہیں: حلب اَشْطُرَ الدهر: اس نے زمانہ کو خوب آزمایا اور اس کی اچھائی برائی سے واقف ہوا۔ هذا حَلَبٌ لك شَطْرُهُ: یہ ایسا کام ہے جس میں فریقین کے لئے نفع ہے۔ الشِّطرة: نوع، قسم۔ کہتے ہیں: اولادُ فلان شِطْرَةٌ: فلاں کی اولاد میں (آدھے لڑکے اور آدھی لڑکیاں ہیں)۔ الشَّطْران م شَطْرَی: صرف آدھا بھرا ہوا۔ الشَّطُور من النعاج او النوق: ایک تھن دوسرے سے لمبا یا ایک تھن خشک رکھنے والی بھیڑ یا اونٹنی۔ ثوبٌ شَطُور: وہ کپڑا جس کی ایک طرف دوسری سے لمبی ہو۔ الشَّطِير: نصف۔ کہتے ہیں: هذا شَطْرُهُ و شَطِيرُهُ: جیسے کہتے ہیں: نصفُهُ و نصيفُهُ: مراد یہ اس کا آدھا ہے۔

۲۔ شَطَرَ ـ شُطُورًا ت الدارُ: دور ہونا ـــ شُطُورًا و شُطُورَةً و شَطَارَةً عنهم: سے جدا ہونا اور دور ہونا ـــ الیهم: پر متوجہ ہونا ـــ علی اهله: شرارت سے اپنے اہل کے خلاف چلنا۔ شَاطَرَ فلانًا: کا کسی کے گھر کے پاس گھر ہونا۔ الشَّطْر جمع اَشْطُر و شُطُور: دوری۔ نوًی شُطُرٌ: دور منزل۔ الابنُ الشاطِر: اپنے والد کی نافرمانی کی وجہ سے آوارگی میں دور رہ کر واپس آنے والا بیٹا۔ دارٌ شَطُورٌ: دوسرے گھروں سے علیحدہ مکان۔ الشطير جمع شُطَرَاء و شُطُر: دور، اکیلا، مسافر۔

۳۔ شَطَرَ ـُ شَطْراً شَطْرَ فلان: کی جانب کا قصد کرنا۔ الشَطْر جمع أَشْطُر و شُطُور: طرف، کنارہ۔ شَطَرَ شَطْرَهُ: کی جانب کا قصد کرنا۔ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِد: اپنا چہرہ مسجد کے مقابل پھیرو۔

۴۔ شَطُرَ ـُ شَطَارَةً: چالاک اور خبیث ہونا۔ الشاطر (فا) جمع شُطَّار: ہوشیار چالاک، فریبی، مکار، شریر۔

⊙ شَطَرَ ـُ شَطْراً ه: کو آدھا کرنا، کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ ـــ ه: کو کاٹنا، جدا کرنا۔ شطرَ بصرُهُ ـُ شُطُوراً: بھینگا ہونا۔ ـُ شُطُوراً و شطورةً و شطارةً عن: سے پیچھے ہٹنا، علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔ ـــ ـُ شُطُوراً و شَطارَةً: عیار، مکار، فریبی، چالباز، چالاک، ہوش مند، زیرک، ماہر، کاری گر ہونا۔ شَطَّر ه: کو آدھا کرنا، دو برابر حصہ میں تقسیم کرنا۔ شَاطَرَهُ ه: کے ساتھ کسی چیز کے دو برابر حصوں کا حصہ دار ہونا۔ ـــ ه: میں حصہ لینا، شریک ہونا۔ شَاطَرَه آراءهُ، فرحَهُ: کے آراء یا خوشیوں میں اس کا شریک ہونا۔ تَشَطَّر: عیاری، چالاکی، تیز طبعی، بانکپن، مستعدی، ہوشیاری، کے آثار ظاہر کرنا۔ انشطر ه: میں تقسیم ہونا، میں لمبائی کے رخ پھٹنا۔ شَطْـر: تقسیم، جدائی، علیحدگی، تنصیف، نصف، آدھ جمع شُطُور و أَشْطُر: ایک آدھا نصف ایک طرح کی کشیدہ کاری، سخاف کاری حصہ، طرف۔ شَطْرَ: کی طرف، کی جانب۔ قَصَدَ شطره: کی طرف جانا۔ وَلَّى انظارَهُ شطرَه: کی طرف نظر کرنا۔ وَلَّى وَجهَهُ شطرَه: کی طرف اپنا رخ پھیرنا۔

۵۔ الشِطْرَنج جمع شِطْرَنْجات: شطرنج۔ (ایک مشہور کھیل (فارسی سے معرب ہے)

⊙ لوحة الشِطْرَنج: شطرنج کی بساط۔

شطس: شطس ـُ شَطْسًا فی الارض: زمین میں سفر کرنا۔ الشطس (مص): چالاکی، دانائی، عقلمندی۔ الشُطْس و الشُطْسَة: مخالفت، عناد، دشمنی۔ الشَطُوس: ہر طرف جانے والا، حکم کی خلاف ورزی کرنے والا۔

شطع: شَطِعَ ـَ شَطَعًا الرجلُ: بیماری وغیرہ کی وجہ سے گھبرانا۔

شطف: ا۔ شَطَفَ ـُ شُطُوفًا الرجلُ: چلے جانا، دور ہونا۔ ـــ عن الشیء: سے ہٹنا، ایک طرف ہونا۔ سهمٌ شاطفٌ: نشانہ پر نہ لگنے والا تیر۔ نِيَّةٌ شَطُوف: ارادہ دور، بے پایاں۔

۲۔ شطفَ ـُ شطفًا الثوبَ و غیرہ: کپڑا وغیرہ دھونا

۳۔ شَطَّفَ الحطبَ: جلانے کی لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا (عام زبان میں)۔ الشُطْفَة من الشیء جمع شُطَف: ٹکڑا۔

⊙ شُطْفة جمع شُطَف: چقماق۔ شِطْفة: کرچ، چھپٹی، ٹکڑا، ریزہ، قاش۔

شطن: ا۔ شَطَنَ ـُ شَطُونًا هُ: کی مخالفت کرنا، کو دور کرنا۔ ـــ فی الارض: ملک میں داخل ہونا۔ ـــ شُطُونَات الدارُ: گھر کا دور ہونا۔ ـــ الرجُلُ: حق وغیرہ سے دور ہونا۔ شَيْطَنَ شَيْطَنَةً و تَشَيْطَنَ: شیطانی کام کرنا۔ أَشْطَنَ هُ: کو دور کرنا۔ الشَاطِن (فا): حق سے منحرف، شریر، خبیث۔ بئر شَطُونٌ: گہرا کنواں۔ نِيَّةٌ شَطُونٌ: ارادہ بعید۔ رمحٌ شَطُونٌ: لمبا ٹیڑھا نیزہ۔ الشَطِين: دور۔ الشيطان جمع شیاطین: بدروح، ہر سرکش و نافرمان خواہ انسان ہو یا جن یا جانور۔ شیاطین العرب: عرب کے نافرمان و سرکش لوگ۔ (ح): سانپ۔ شَيْطَانُ الشِعر عند العربَ الاقدمین: قدماء عرب کے نزدیک شاعر کو شعروں کی وحی کرنے والا شیطان۔

۲۔ شَطَنَ ـُ شَطْنًا هُ: کو رسی سے باندھنا۔ الشَطَن جمع أَشْطَان: رسی۔ حربٌ شَطُونٌ: بہت سخت جنگ۔

۳۔ شیطانُ الفلا: پیاس۔ مُخاطُ الشَيْطان: تر مرے۔ شَياطِينُ الرأس: غصہ کا جوش۔ کہتے ہیں: رکبه شیطانُه: شیطان اس پر سوار ہوا یعنی وہ غضبناک ہوا۔

⊙ شَطَنَ ـُ شَطْنًا ه ب: کو رسی سے باندھنا، جوڑنا، لگانا، کو سے نتھی کرنا، منسلک کرنا۔ تَشَيْطَنَ: شیطان کی طرح پیش آنا، رویہ اختیار کرنا۔ شیطان جمع شیاطین: شیطان، ابلیس، بھوت پریت، آسیب، خبیث روح، سخت برا آدمی۔ شیطانی: شیطانی، برا، شیطنت والا، ابلیسانہ، نہایت ظالمانہ، ملعون، لعنتی، شیطان کا سا، شیطان سیرت، آسیب زدہ، عفریتی، آسیبی، بھوت پریت کا، جہنمی، دوزخی، نفرت انگیز۔

شطی: شَطِيَ ـَ شُطِيًّا: بمعنی شصی۔ شَطَّى تَشْطِيَةَ الشاةَ: بکری کی کھال اتار کر اس کے گوشت کو جدا کرنا۔ إِنْشَطَى الشیءُ: شاخ دار ہونا، متفرق ہونا، جدا جدا ہونا۔

شظ: ا۔ شَظَّ ـُ شَظًّا القومَ: لوگوں کو منتشر کرنا، دھتکارنا۔ شَظَّظَ و أَشَظَّ القومَ: لوگوں کو منتشر کرنا، دھتکارنا۔ الشَظّ (مص) جمع أَشْظاظ: باقی ماندہ دن۔ الأَشْظَاظ و الشَظاظ: کہتے ہیں: طاروا أَشْظَاظًا او شَظَاظًا: وہ ہر طرف منتشر ہو گئے۔

۲۔ شَظَّ ـُ شَظًّا و أَشَظَّ الجُوالِقَ: ٹیڑھے سرے کی لکڑی کو بورے کے دونوں گوشوں میں باندھنا۔ الشِظاظ جمع أَشِظَّة: ٹیڑھے سرے کی لکڑی جو بورے کے گوشوں داخل ہو۔

۳۔ شَظَّ ـُ شَظًّا الامرُ: کسی معاملہ کا پرشاق ہونا۔ الشَظِيظ جمع أَشِظَّاظ: بندھا ہوا بورا، چری ہوئی لکڑی۔

شظف: ا۔ شَظَفَ ـُ شَظْفًا هُ عن کذا: کو سے منع کرنا، روکنا۔ الشِظَاف: بُعد، دوری۔

۲۔ شَظِفَ ـَ شَظَفًا العیشُ: گزران کا تنگ ہونا۔ ـــ الرجُلُ: کی زندگی کا تنگ ہونا۔ صفت: شَظِفُ العیش۔ ـــ ت الیدُ: ہاتھ کا کھردرا ہونا۔ شَظِفَ ـَ و شَظُفَ ـُ شَظَافَةً الشجرُ: درخت کا سخت ہونا، صفت: شَظِيف۔ الشَظْف (مص): لاٹھی کی پھٹن۔ الشَظَف (مص) ج شِظَاف و الشَظَاف: تنگی، سختی، روٹی کی خشکی اور سختی۔ الشِظْف جمع شِظَفَة: خشک روٹی، کھونٹی جیسی لکڑی۔ الشَظِف: بدخلق، سخت جنگجو۔ عودٌ شَظِف: ٹوٹی ہوئی لکڑی۔ أرضٌ شَظِفَة: سخت اور خشک زمین۔

۲۔ شَظِفَ ـَ شَظَفًا السهمُ: تیر کا کھال اور گوشت کے درمیان میں گھسنا۔

۳۔ المِشْظَف: بے ارادہ بولنے والا۔

⊙ شَظَف جمع شِظَاف: بے کلی، الجھن، بے چینی، بے آرامی، سختی، مشکل، زندگی کی کرختگی۔ اقام علی شظفِ العیش: مصائب کی زندگی بسر کرنا۔ شَظِف: سخت، ناہموار، اکھڑ، سادہ (زندگی، کردار)

شظی: ا۔ شَظِيَ يَشْظَى شَظًى: پھٹنا۔ ـــ القومُ: لوگوں کا متفرق ہونا۔ شَظَّى تَشْظِيَةً القومَ: قوم کو پراگندہ کرنا، متفرق کرنا۔ ـــ الفرسَ: گھوڑے کے گھٹنے کی باریک ہڈی کو پھاڑنا۔ أَشْظَى هُ: کے گھٹنے کی باریک ہڈی پر مارنا۔ تَشَظَّى: پھٹنا، متفرق ہونا۔ ـــ العودُ: لکڑی کے ٹکڑے اڑنا۔ شاعر کہتا ہے: کالدُّرتین تشظّى عنهما الصدَفُ: ان دو موتیوں کی طرح جن سے سیپی جدا ہو گئی ہو۔ إِنْشَظَى: پھٹنا۔ الشَظَى (مص): گھٹنے یا بازو کے اگلے حصہ کی پتلی اور چھوٹی ہڈی یا ان کے چھوٹے چھوٹے پٹھے۔ قوم کے پیرو، قوم میں اجنبی لوگ۔ الشَظِيَّة جمع شَظَايَا و شَظِي (ع ا) پنڈلی کی ہڈی، لکڑی اور

ہڈی وغیرہ کا ٹکڑا۔ کمان۔

۲۔ شَظِيَ - شَظًى السِقاءُ: مشک کا پانی بھرنے سے تن جانا۔ - الميتُ: میت کے ہاتھ پاؤں کا اٹھنا۔

○ شَظِيَ - شظًى و تَشَظَّى: (چھپٹی، کرچ وغیرہ) کا اُڑنا، بکھرنا، ریزہ ریزہ ہونا۔

شعّ: ۱۔ شَعَّ - شَعًّا و شَعَاعًا الماءُ: پانی کا پھیلنا۔ - الماءَ: پانی بکھیرنا۔ کہتے ہیں: شَعَّ الغارةَ عليهم: اس نے ان پر غارت ڈالی (لوٹ مار کی)۔ أَشَعَّ إِشعَاعًا الماءَ و نحوَهُ: پانی وغیرہ بکھیرنا۔ - ت الشمسُ: سورج کا اپنی کرنیں پھیلانا۔ اِنْشَعَّ الذئبُ في الغنم: بھیڑیئے کا بکریوں میں تباہی مچانا۔ الشَعَاع (مص): خون وغیرہ کا بکھرنا، ہر بکھری ہوئی چیز۔ کہتے ہیں: ضربت بالعصا على الحائط فتطايرت شَعَاعًا: میں نے دیوار پر لاٹھی ماری تو وہ ٹوٹ گئی اور اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ ذهب القومُ شَعَاعًا: لوگ متفرق ہو کر چلے گئے۔ طار قلبُهُ شَعَاعًا: اس کا دل غموں سے پراگندہ ہو گیا۔ طارت نفسُهُ شَعَاعًا: اس کا دل خوف وغیرہ سے پراگندہ ہو گیا۔ الشُعَاع جمع أَشِعَّة و شُعُع و شِعَاع: سورج کی کرن۔ (ہ): سیدھی لکیر کا ٹکڑا۔ شُعاع الدائرة (ہ): مرکز اور دائرے کے نقطہ کے مابین تعلق قائم کرنے والے دائرہ کے خط مستقیم کا ٹکڑا، نصف قطر۔ الشِعَاع: شعاعیں بھیجنے کا آلہ۔ شُعُّ الشمس: سورج کی کرن۔ الشَعّ من كل شيء: ہر متفرق چیز۔ الشُعَاعيات (ح): گہرے سمندروں میں رہنے والے خوردبینی جانور۔ المُشِعّ جمع مُشِعات (ف): تابکار، وہ چیز جو شعاعیں نکالتی یا ڈالتی ہو جیسے ریڈیم، اورینیم وغیرہ، تابکار، ریڈیو ایکٹو radio active۔

۲۔ أَشَعَّ إِشعَاعًا الزرعُ (ز): کھیتی کا خوشہ نکالنا۔ - السنبلُ (ز): بالی کا دانوں سے پر ہونا۔ الشَعَاع من اللبن: زیادہ پانی ملا ہوا دودھ۔ شَعَاعُ السنبلِ: خوشہ کا خار۔ شُعَاع شِعَاعُ و شَعُّ السنبل: خوشہ کا خار۔

۳۔ شَعَّ - شَعًّا و شَعِيعًا: تیزی کرنا، جلدی کرنا۔ الشَعّ و الشَعِيع: جلدی۔

۴۔ الشَعّ: مکڑی کا جالا۔ الشَعَاع: ہلکا سایہ۔

○ شَعَّ - شَعًّا و شعاعًا: منتشر ہونا، بکھرنا، پھیلنا، نفوذ کرنا، چمکنا، چمک اٹھنا، شعاعیں نکالنا، بھڑک اٹھنا، شعلہ فشاں ہونا۔ أَشَعَّ ہ: کو نکالنا، خارج کرنا، پھیلانا، منتشر کرنا: کرنیں یا شعاعیں خارج کرنا، نکالنا، مرکز سے پھیلنا، چمکنا، چمک اٹھنا۔ تَشَعَّعَ: شعاعیں یا کرنیں نکالنا، ڈالنا۔ شُعّ: کرنیں، شعاعیں۔ شَعَاع: سراسیمہ، بٹے ہوئے خیال والا، گھبرایا ہوا، پریشان، حیران، الجھا ہوا۔ شُعاع اسم جمع واحد شُعَاعَة جمع أَشِعَّة: کرنیں، شعاعیں (پہیے کا) تار۔ الأَشِعَّةُ فوق البَنَفسَجِيَّة ماوراء بنفسجی شعاعیں ultra violet rays: الأشِعَّة التي تحت الأَحْمَر: the infra red rays ماورائے احمر یا تحت احمر شعاعیں۔ صورةُ أشِعَّة: ایکسرے فوٹو۔ فاعلية الأشعة: تابکاری radioactivity۔ إِشْعَاعي: تنویری، درخشاں۔ تَشَعُّع: تنویر، درخشانی۔ التشعع الحراري: حرارت کی درخشانی۔ التَشَعُّع الشمسي: شمسی تنویر۔ مُشِعَّة: radiator (1) حرارت (heater): حرارت کش (آلہ) (انجن ٹھنڈا کرنے کا آلہ)۔

۵۔ شَعْشَعَ الشرابَ: شراب میں پانی ملانا۔ - الشيءَ: کسی چیز کے بعض کو بعض کے ساتھ ملانا۔ تَشَعْشَعَ الشهرُ: مہینہ کا اکثر حصہ گزر جانا۔ الشُعْشُع و الشَعْشَع و الشَعْشَاع و الشُعْشُعَان و الشَعْشَعَاني: لمبا، دانا، زیرک، سبک۔ - من الظلّ: ہلکا سایہ۔ الشُعْشُوع (ن): بن کی نئی سرخ رنگ کی تازہ اور مزیدار شاخ۔

۶۔ شَعْشَعَ ت الشمسُ: سورج کی روشنی کا پھیلنا۔ - الضوءُ: روشنی کا پھیلنا۔ - عليهم الخيلَ: پر سواروں سے حملہ آور ہونا۔

○ شَعْشَعَ (ہ): مشروب میں پانی ملانا، کو پانی ملا کر ہلکا کرنا۔ -: چمکنا، دمکنا، شعاعیں نکالنا۔ مُشَعْشَع: آدھا نشے میں، آدھا پئے ہوئے۔

شعب: شَعَبَ - شَعْبًا الشيءَ: کو جمع کرنا، متفرق کرنا (ضد) پھاڑنا۔ - فلانًا: کو مشغول کرنا۔ - اللجامُ الفرسَ: لگام کا گھوڑے کو اس کے راستہ پر جانے سے روکنا اور پھیرنا۔ - الشيءُ: ظاہر ہونا، نمودار ہونا۔ - القومُ: لوگوں کا متفرق و منتشر ہونا۔ - إلى القوم: ساتھیوں کو چھوڑ کر قوم کی طرف رخ کرنا۔ - الاميرُ رسولاً إلى موضع كذا: امیر کا کسی کو ایلچی بنا کر کسی جگہ بھیجنا۔

شَعِبَ - شَعَبًا الرجلُ او الثورُ: آدمی کے دونوں شانوں اور بیل کے دونوں سینگوں میں فاصلہ ہونا۔

شَعَّبَ عنه: سے ہمیشہ کے لئے جدا ہونا۔ شَاعَبَ صاحِبَهُ: ساتھی سے جدا ہونا، دور ہونا۔ أَشْعَبَ عنهُ: سے ہمیشہ کے لئے جدا ہونا۔ تَشَعَّبَ القومُ: لوگوں کا متفرق ہونا۔ - الزرعُ: کھیتی کا شاخ دار ہونا۔ - النهرُ: نہر کی کئی شاخیں نکلنا۔ - عنه: سے دور ہونا۔ - ت اغصانُ الشجرة: درخت کی شاخوں کا ادھر ادھر پھیل جانا۔ تَشَعَّبَتْهُمُ الفتنةُ: فتنہ و فساد کا لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا یا متفرق کرنا۔ إنْشَعَبَ عنه: سے دور ہونا۔ - تْ أغصان الشجرة: درخت کی ٹہنیوں کا جڑ سے پھوٹنا۔ - الطريقُ او النهرُ: راستہ یا نہر کا پھٹنا۔ - به القولُ: بات میں بات نکلنا۔ الشَعْبُ جمع شُعُوب: دور، دوری، کہتے ہیں: ماءٌ شَعْبٌ: دور پانی، لوگوں کی ایک جماعت۔ الشِعْب جمع شِعاب: پہاڑی راستہ، درہ کوہ، پانی کا راستہ، کنارہ، کونہ۔ الشَعْبُ (مص) جمع شُعُب و شِعاب: دونوں کندھوں یا سینگوں کے درمیان کا فاصلہ۔ کہتے ہیں: شَغَلَتْ شِعَابي جدواي: اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے نے مجھے دوسروں پر فضل و کرم سے مشغول رکھا۔ الشُعْبَة جمع شُعَب و شِعَاب: فرقہ، گروہ۔ (کہا جاتا ہے: اِشعَبْ لي شُعْبَةً من المال: مجھے اپنے مال کا ایک ٹکڑا دو)، پہاڑ کی دراڑ، درخت کی شاخ۔ دو شاخوں یا سینگوں کے درمیان کا فاصلہ، پانی بہنے کی جگہ، وادی کی بڑی نالی۔ شُعَبُ الدهر: حالات زمانہ۔ - اليد: انگلیاں۔ - السَفُّود: سیخ کے دندانے جن میں گوشت بھوننے کے لئے لگاتے ہیں۔ - الفرس: گھوڑے کا سر اور پیٹھ کا اوپر کا حصہ جو دونوں کندھوں کے درمیان ہوتا ہے۔ - الجسم: ہاتھ پاؤں۔ کہتے ہیں: هذه مَسألةٌ كثيرةُ الشُعَب: یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کئی نتائج نکلتے ہیں۔ شُعْبَتا الرَحْل: کجاوہ کا آگے اور پیچھے کا حصہ۔ الأَشْعَب م شَعْباء جمع شُعْبٌ: دونوں شانوں یا سینگوں کے درمیان بہت فاصلہ رکھنے والا، ٹوٹے سینگ والا۔ الشاعبان: دونوں کندھے۔ شَعْبَان جمع شعابين و شَعْبَانات: قمری مہینوں کا آٹھواں مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ اس کے ۲۹ دن ہوتے ہیں۔ غیر منصرف ہے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینہ میں عرب پانی کی طلب میں متفرق ہو کر نکل جاتے ہیں۔ المَشْعَب ج مَشَاعِب: راستہ۔ کہتے ہیں: هذا مَشْعَبُ الحق: یہ حق کا راستہ ہے جس سے حق و باطل میں امتیاز ہوتا ہے۔

۲۔ شَعَبَ - شَعْبًا الشيءَ: کو اکٹھا کرنا، جدا کرنا (ضد)، درست کرنا، خراب کرنا (ضد)۔ تَشَعَّبَ و اِنْشَعَبَ الشيءُ: چیز کا درست ہونا۔ الشَعْب ج

شُعُوب: سر کے ٹکڑوں کے جوڑ کی جگہ، دراڑ۔ (کہتے ہیں: التأم شَعْبُهُمْ: وہ متفرق اور منتشر ہونے کے بعد اکٹھے ہو گئے) بڑا قبیلہ، عربوں کا بڑا طبقہ، (یہ طبقے مندرجہ ذیل ہیں: شعب، قبیلہ عمارۃ، بطن فخذ، فصیلہ، شعب قبائل کا مجموعہ ہے۔ اسے بڑا طبقہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ قبائل اس کی شاخیں ہیں، قبیلہ عمائر کا مجموعہ ہے عمارۃ بطون کا اور بطن افخاذ کا جبکہ فخذ فصائل کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ خزیمہ شعب ہے، کنانہ قبیلہ قریش عمارۃ وقصی بطن، ہاشم فخذ اور عباس فصیلۃ ہے۔ اس میں ایک ساتواں طبقہ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے اور یہ ساتواں طبقہ عشیرۃ ہے اس سے مراد باپ کے قریب ترین بیٹے ہیں)۔ مثل (کہتے ہیں: ھما شَعْبان: وہ مثل ہیں) الشَّعب ج شِعاب: بڑا محلہ۔ الشَّعَّاب: دراڑ کو جوڑنے والا۔ الشُّعُوبِيَّة: واحد شُعُوبِی: ایک فرقہ جو عرب کو عجم پر ترجیح نہیں دیتا۔ الشِّعابَة: شَعّاب کا پیشہ۔ الشَّعِيب جمع شُعُب: پرانی مشک، پالان، توشہ دان۔ المُشَعَّب: درست کیا ہوا۔ المِشْعَب جمع مَشَاعِب: سوراخ کرنے کا اوزار، برما۔

۳۔ شَعَبَ ـ شَعْبًا الرجلُ: مرنا۔ ـ ہ المنيّةُ: کو موت کا اچانک آلینا۔ شاعَبَ ت نفسُهُ: مرنا۔ ـ الحیوۃَ: زندگی کو ہلاک کرنا۔ أَشْعَبَ الرجلُ: مرنا۔ اِنْشَعَبَ الرجلُ و اِنْشَعَبَتْ نفسُهُ: مرنا۔ شَعُوب: موت، غیر منصرف ہے۔

۴۔ شَعْبَذ: شعبدہ بازی کرنا (دیکھو شَعْوَذ)

○ شَعَبَ هم/(ف): کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، کو متفرق کرنا، منتشر کرنا، بکھیرنا۔ شَعَّبَ ہ: کو شاخ در شاخ کرنا، کی شاخیں نکالنا، کو شاخوں یا سب ڈویژنوں میں تقسیم کرنا۔ تَشَعَّبَ: شاخیں نکلنا، تقسیم در تقسیم ہونا، راہیں الگ ہونا، جدا ہونا، مختلف جہتوں میں حرکت کرنا، ـ سے الگ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، متفرق ہونا، منتشر ہونا، ـ سے شاخ نکلنا، کا نتیجہ ہونا۔ شَعْب جمع شُعُوب: لوگ، عوام، قوم، قبیلہ، نسل۔ شِعب جمع شِعاب: پہاڑی راستہ، پہاڑی پگڈنڈی، تنگ گھاٹی، گہری گھاٹی، کھڈ، گہری کھڈ، خلیج، اتھاہ، گہرائی، سمندر میں سطح کے برابر اونچی چٹان۔ شِعْبة: سمندر میں سطح کے برابر اونچی چٹان۔ شُعْبة جمع شُعَب و شِعاب: شاخ، ٹہنی، بازو یا ٹانگ، شاخ در شاخ ہونا، تفرع، کونپل، ٹہنی، ڈالی، چشمہ، سوتا، پھوار، کاٹا، شاخ، سب ڈویژن، سیکشن، ڈیپارٹمنٹ، برانچ، سیل (cell)، مطالعہ کا میدان تعلیم کا شعبہ (discipline)، حصہ، جمع شُعَب: bronchus۔ التہاب الشُّعَب: ورم زخرہ، قصبی ورم۔ شُعَبی: قصبی bronchial۔ أَشْعَب: ایک روایتی کنجوس کا نام۔ اطمع من أشعب: اشعب کنجوس سے زیادہ حریص۔ طمع اشعبی: بہت زیادہ لالچ۔ مُتَشَعِّب: کئی پہلوؤں والا، ہمہ گیر۔ شَعْبَذ: شعبدہ بازی کرنا، کرتب دکھانا، ہاتھ کی صفائی دکھانا۔ شَعْبَذَة: شعبدہ بازی، کرتب، ہاتھ کی صفائی، جادو۔

شعث: ۱۔ شَعِثَ ـ شَعَثًا و شُعُوثَةً الشَّعَرُ: بالوں کا غبار آلود اور بکھرے ہوئے ہونا (صفت) أَشْعَث م شَعْثاء جمع شُعْث: پراگندہ بالوں والا ـــ شَعِثَ الامرُ: معاملہ کا پراگندہ ہونا۔ شَعَّثَ الشیءَ: چیز کو بکھیرنا، پراگندہ کرنا ـــ الشاعِرُ: شعر میں تشعیث لانا ـــ من فلان: سے چشم پوشی کرنا ـــ من الطعام: تھوڑا سا کھانا کھانا ـــ منه شَيْئًا: چیز لے لینا، نکال لینا۔ ہ بخیر: کو بھلائی پہنچانا۔ تَشَعَّثَ: بکھرنا، پراگندہ ہونا۔ ـ الشَّعَرُ: بالوں کا غبار آلود اور بکھرا ہوا ہونا ـــ الشِّعْرُ: شعر میں تشعیث داخل ہونا ـــ من الطعام: کھانے میں سے تھوڑا سا کھا لینا۔ الشَّعْث و الشَّعَث: کام کی پراگندگی۔ کہتے ہیں: لَمَّ اللّٰہ شَعَثَهُمْ: اللہ تعالیٰ نے ان کے امر کو جمع کر دیا۔ الشَّعِث و الشُّعْثان: بمعنی الأشعث (غبار آلود اور بکھرے ہوئے بالوں والا)۔ التشعیث: علم عروض کی اصطلاح میں فاعلاتن کے وتد میں سے ایک متحرک حذف کر دینے کو کہتے ہیں اور وہ مفعولن میں منتقل ہو جاتا ہے۔

۲۔ شَعَّثَ عنه: کی مدافعت کرنا، حفاظت کرنا۔

شعر: ۱۔ شَعَرَ ـ شِعْرًا و شَعْرًا الثوبَ: کپڑے کے اندر بال لگانا یا بھرنا۔ شَعِرَ ـ شَعَرًا: لمبے اور زیادہ بالوں والا ہونا۔ شَعَّرَ الجنینُ: ماں کے پیٹ میں بچہ کے بال نکلنا۔ ـ الثوبَ و نحوہ: کپڑے کے اندر بال لگانا یا بھرنا۔ أَشْعَرَ الجنینُ: ماں کے پیٹ میں بچہ کے بال نکلنا ـــ الثوبَ: کپڑے کے اندر بال لگانا یا بھرنا ـــ ہ الشِّعارَ: کو شعار پہنانا، بدن سے لگنے والا کپڑا پہنانا ـــ ہ بکذا: کو کے ساتھ چپکانا۔ کہتے ہیں: أَشْعَرَ الھمُّ قلبی: فکر و غم نے میرے دل کو پکڑ لیا۔ ہ شَرًّا: کو شر سے ڈھانپ لینا۔ تَشَعَّرَ الجنینُ: ماں کے پیٹ میں بچہ کے بال نکلنا۔ اِسْتَشْعَرَ الجنینُ: ماں کے پیٹ میں بچہ کے بال نکلنا ـــ الشِّعارَ ـــ بالثوب: شعار پہننا: کپڑے کو اور کپڑوں کے نیچے پہننا۔ الشَّعْر ج أَشْعار و شِعار و شُعُور واحد شَعْرَة جمع شَعَرات: بال۔ الشَّعَر (مو): والکن، سارنگی کے کمانچہ کے تار جن کو چھیڑ کر موسیقی پیدا کی جاتی ہے ـــ ج أَشْعار و شِعار و شُعُور واحد شَعْرَة جمع شَعَرات: بال۔ الشَّعِر و الشَّعْرانی: لمبے اور گھنے بالوں والا۔ الشِّعْرَة: بالوں کا ٹکڑا ـــ والشِّعْراء: زیر ناف بال اگنے کی جگہ۔ الشِّعار: وہ لباس جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ الشِّعار جمع أَشْعِرَة و شُعُر: جسم سے لگنے والا کپڑا، گھوڑے کی جھول۔ الشَّعِيرَة: خنجر کے چھ بالوں کے برابر پیمائش۔ الأَشْعَر م شَعْراء جمع شُعْر: گھنے اور لمبے بالوں والا۔ کہتے ہیں: فلانٌ أَشْعَرُ الرقبة: فلاں مضبوط گردن والا ہے گویا کہ شیر ہے۔ الشَّعْراء جمع شُعْر: پوستین۔ المَشْعَر جمع مَشَاعِر: درخت کے نیچے سایہ لینے کی جگہ۔ إناءٌ مَشْعُورٌ: تھوڑا سا پھٹا ہوا برتن (عام زبان میں)۔

۲۔ شَعَرَ ـ شِعْرًا و شَعْرًا الرجلُ: شعر کہنا ـــ لفلان: کسی کے لئے شعر کہنا۔ شاعَرَہ فشَعَرَہ: کے ساتھ شعروں میں مقابلہ کرنا اور اس کا اس پر غالب آنا۔ تَشاعَرَ: بناوٹی شاعر بننا۔ الشِّعْر (مص) جمع أَشْعار: شعر، منظوم کلام، موزوں کلام۔ مثل ہے: اعذبُ الشعر اکذبُہ: شعر جتنا دلکش ہوتا اتنا ہی زیادہ جھوٹا ہوتا ہے۔ الأَشْعَر: کہتے ہیں: ھذا البیت أَشْعَرُ من ھذا: یہ بیت اس بیت سے بہتر ہے۔ الشاعر (فا) جمع شُعَراء م شاعِرَة جمع شَواعِر و شاعِرات: شاعر، شعر کہنے والا۔ شِعْرٌ شاعِر: عمدہ شعر۔ الشُّعْرُور جمع شَعارِیر واحد شُعْرُورَة: بہت کمزور شاعر۔

۳۔ شَعَرَ ـ و شَعُرَ ـ شِعْرًا و شَعْرًا و شِعْرَى و شُعْرَى و شِعْرَى و شَعْرَةً بتثلیث الشین شُعُورَةً و شُعُورًا و شُعُورَةً و مَشْعُورًا و مَشْعُورَةً و مَشْعُوراء بہ: کو جاننا، محسوس کرنا۔ و ـ لہ: کو سمجھنا۔ أَشْعَرَہُ الأمرَ و بالأمرِ: کو کوئی خبر دینا، کو سے آگاہ کرنا ـــ امرَ فلانٍ: کے معاملہ کو مشہور کرنا۔ ـ الرجلَ: کو برے نام سے مشہور کرنا۔ الشِّعْر (مص): علم، معرفت، آگاہی، کہتے ہیں: لیتَ شِعْری فلانًا أو عن فلانٍ او لِفلانٍ ما صنع: کاش میں جانتا ہوتا کہ فلاں نے کیا کیا۔ المَشاعِر: حواس۔ رجلٌ مَشْعُورٌ: پاگل، سودائی، احمق۔

۴۔ أَشْعَرَ القومُ: قوم کا اپنے لئے کوئی خاص علامت

مقرر کرنا، ایک دوسرے کو خاص علامت سے پکارنا۔ اِسْتَشْعَرَ الْقَوْمُ: قوم کا لڑائی میں ایک دوسرے کو اپنی خاص علامت سے پکارنا۔ کہتے ہیں: اِسْتَشْعِرْ خوفَ اللّٰہِ: اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل کے لئے شعار بنالو۔ الشِعَار جمع أَشْعِرَۃ و شُعُر: خاص لفظ جو فوج میں مقرر ہوتا ہے اور جس سے اپنے آدمیوں کو پہچانتے ہیں اور لڑائی کے وقت اس لفظ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ (اس کو سِرُّ اللیل بھی کہتے ہیں) لڑائی یا سفر میں مقررہ علامت۔ شِعَار الحجّ: حج کی علامات و رسوم۔ المملکۃ واحد شِعَارۃ: حکومت کی علامات۔ شِعارُ الحج واحد شَعَارۃ: حج کی رسوم واحکام۔ الشَعِیرَۃ جمع شعائر: علامت۔ شعائر الحج (بمعنی) حج کی رسوم واعمال ونشانات) کا واحد۔ المَشْعَر جمع مَشَاعِر: مناسک حج بجالانے کی جگہ۔

۵۔ أُشْعِرَ المَلِکُ: بادشاہ کا قتل ہونا۔

۶۔ الشَعَار: درختوں والی جگہ، گھنے اور گنجان درخت جہاں لوگ سردی کے موسم میں گرماہٹ حاصل کریں اور گرمیوں کے موسم میں سایہ لیں، درخت۔ الشِعَار جمع أُشْعِرَۃ و شُعُر: کڑک، گنجان درخت۔ الشَعِیر واحد شَعِیرَۃ (ن): جَو۔ الشَعِیرَۃ (طب): آنکھ کی پلک میں جو نما نکلنے والی سوجن۔ الشَعِیری: جوکا، جوفروش۔ الأَشْعَر جمع أَشَاعِر: جانور کے کھر کے آس پاس کی کھال، ناخن کے نیچے نکلنے والا گوشت۔ الشَعْرَاء جمع شُعُر (ح): جانوروں پر بیٹھنے والی مکھی، لوگوں کی کثرت اور بھیڑ۔ (ن): ایک قسم کا آڑو۔ (ن): ایک ترش ذائقہ کا درخت۔ ۔ من الدواهي: سخت مصیبت۔ ارضٌ شعراء: بہت درختوں والی جگہ۔ رمالٌ شَعْرَاء: ریت جہاں عمدہ قسم کا چارہ اگتا ہو۔ الشِعْرَی (فلک): سخت گرمی میں طلوع ہونے والا ایک ستارہ۔ الشُعْرُوْر جمع شَعَارِیر واحد شُعْرُوْرَۃ (ن): چھوٹی ککڑی۔ الشَعْرِیَّۃ جمع شَعْرِیَّات: لکڑی کی پٹیوں والی کھڑکی جس کی وجہ سے باہر والے اندر والوں کو نہیں دیکھ سکتے، چوبی جھروکہ۔ اسے مَشْرَبِیَّہ بھی کہتے ہیں۔ المَشْعَر جمع مَشَاعِر: سایہ دار درخت۔

شَعَرَ ۔ شُعُوراً (ب): کو جاننا۔ ۔ أن: جاننا کہ۔ ۔ ب: سے آگاہ ہونا یا کی آگاہی حاصل کرنا۔ ۔ ب: کو دیکھنا۔ ۔ أن: دیکھنا کہ۔ ۔ ب: کو محسوس کرنا۔ ۔ أن: محسوس کرنا کہ۔ ۔ ب: سے واقف ہونا، باخبر ہونا۔ لَمْ یشعر إلا ب ۔ و لم یشعر الا و ۔ وما شَعَرَ الا ب و ما شَعَرَ الا و ۔ : اس سے پہلے کے اسے اس کا احساس ہوتا، اچانک ..... تھا یا ..... ہوا۔ أَشْعَرَہٗ ہ/ب: کو کچھ یا کے بارے میں جاننے دینا، کو کی یا کے بارے میں اطلاع دینا، کو کی اطلاع فراہم کرنا، کو کچھ بتانا، پر کچھ ظاہر کرنا۔ استشعر ہ/ب: کو محسوس کرنا، بھانپ لینا، سے واقف ہونا، آگاہ ہونا۔ ۔ ہ: کسی احساس سے مملو ہونا۔ شَعْر و شَعَر: (اسم جمع واحد شَعْرۃ جمع اشعار و شُعُور و شِعَار: بال، پشم، پوستین۔ شَعْرَۃ (واحد) جمع شعرات: بال۔ لا قدرَ شعرۃ: بال برابر فاصلہ جتنا بھی نہیں۔ شَعْرِی شَعَرِی: بالوں سے بھرا ہوا، بالوں کا۔ شَعْرِیَّۃ جمع شعریات: تاروں کی جالی۔ شعریۃ الشُبّاك: سایہ دار کھڑکی windowshade۔ شِعْرِیَّۃ: سویاں۔ شعرانی: بالوں سے بھرا ہوا، لمبے موٹے بالوں والا۔ شِعر: علم، معرفت۔ لیتَ شعری: کاش میں جانتا جمع اشعار: شاعری، فن شاعری، شعر گوئی، نظم۔ شِعْرِی: شعروں میں، منظوم، شاعرانہ۔ شَعْرَی جمع شَعَارَی: جھاڑ جھنکار والا علاقہ۔ شِعَار جمع شُعُر و أَشْعِرَۃ: شناختی لفظ (password)، پہرے کا لفظ watch word، نعرہ، اصول عمل، ماٹو (motto)؛ نشان بطور علامت، نشانی، ٹوکن (token)، اشارہ، امتیازی نشان یا خصوصیت، علامت (emblem) بلا (badge)۔ شِعارٌ تجاریٌ: ٹریڈ مارک۔ تجارتی نشان۔ شَعِیرِیَّۃ: سویاں۔ شعور: علم، معرفت، واقفیت، آگہی، ادراک، نکتہ رسی بصیرت، قوت مدرکہ، احساس، جذبہ، ادراکیت، اثر پذیر مزاج، مزاجی کیفیت۔ علی غیر شُعُورٍ منہ: اس کے متعلق اس کی آگاہی کے بغیر، انجانے میں۔ غاب عن الشعور: بے ہوش ہوجانا۔ فاقد الشعور: بے ہوش۔ الشعور بالنفس: خودآگاہی، خودآگہی۔ الشعور بالذات: خودآگاہی، خودآگہی۔ دِقّۃ الشعور: احساس، اثرپذیری۔ الشعور المشترك: اجتماعی شعور، یکجہتی۔ عدیم الشعور: غیرحساس۔ شُعُوری: دانستہ، جذباتی۔ لاشعوری: نادانستہ۔ تحت الشعوری، نیم شعوری۔ شَعَارَی: بکریاں۔ شُعْرُور: تک بند (rhymester, poetaster)۔ شَاعِرِیَّۃ جمع شاعِرِیّات: شاعری، شعر کہنے کی صلاحیت، جوہر ذہانت، شاعریت۔ شواعر: حملے، ہجویں، تلخ تنقیدیں، افتراءات، رسوائیاں، بدنامیاں۔ مَشْعُور: پھٹا ہوا، درزوں والا، پاگل، سودائی، احمق۔ مُشْعِرانی: بالوں سے بھرا ہوا، موٹے اور لمبے بالوں والا۔ شُوَیْعِر: تک بند۔

شعف: ۱۔ شَعَفَ ۔ شَعْفاً الحُبُّ: محبت کا دل پر غلبہ پانا۔ ۔ بالقطران: کو قطران ملنا۔ ۔ الشیءَ الشیءَ: ایک چیز کا دوسری پر چڑھنا۔ شَعِفَ ۔ شَعَفاً بفلان و بحُبّ فلان: پر فریفتہ ہونا۔ شُعِفَ بفلانٍ: کسی کی محبت کا دل میں بیٹھ جانا، محبت میں بے خود ہونا۔ الشَعَف (مص): کوہان کی چوٹی۔ الشَعْفَۃ: اسم مرۃ۔ الشَعَفَۃ ج شَعَف و شُعُوف و شِعَاف و شَعَفَات: پہاڑ کی چوٹی، بالوں کی لٹ۔ ۔ من القلب: دل کا سرا جو شاہ رگ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ شَعَفَۃُ کلِّ شیء: چوٹی۔ الشُعَاف: دیوانگی، محبت کی فریفتگی۔ الشَعَاف: محبت کا دل کو چرانا۔ المَشْعُوف: محبت میں شیفتہ، محبت کا دیوانہ۔

۲۔ شَعِفَ ۔ شَعَفاً تِ الناقۃُ: اونٹنی کو شعف کی شکایت ہونا صفت: شَعْفَاء۔ الشعف (طب): اونٹنی کی ایک بیماری جس کے اثر سے اس کی آنکھوں کے بال جھڑ جاتے ہیں۔

۳۔ الشَعْفَۃ: بارش کا ایک قطرہ، ہلکی بارش جو زمین کی سطح کو تر کردے۔ ضرب المثل ہے: ما تنفع الشَعْفَۃُ فی الوادی الرُغُب: ہلکی بارش وسیع وادی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی جسے بھرنے کے لئے زبردست سیلاب درکار ہو۔ اس شخص کے بارے میں بولی جاتی ہے جس کی ڈھیر ساری ضروریات ہوں اور آپ اسے بہت ہی تھوڑا سا دیدیں۔ سمندر سے پیاسے کو ملے قطرۂ شبنم۔

شعل: ۱۔ شَعَلَ ۔ شَعْلاً النارَ: آگ بھڑکانا۔ شَعَّلَ النارَ: آگ بھڑکانا۔ أَشْعَلَ النارَ: آگ بھڑکانا۔ ۔ ہٗ: کو غضبناک کرنا۔ تَشَعَّلَتِ النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ اِشْتَعَلَتِ النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ کہتے ہیں: اِشْتَعَلَ الرأسُ شَیباً: سر کے بالوں میں بڑھاپے کی سفیدی پھیل جانا۔ اِشْتَعَلَ فلانٌ: کسی کا غصہ سے بھڑک اٹھنا۔ غلامٌ شَعِلٌ: جوشیلا نوجوان۔ الشُعْلَۃ جمع شُعَل: آگ کا شعلہ، آگ کی بھڑک، جلتی لکڑی جس سے آگ بھڑکائی جائے۔ الشَعِیل: ہانڈی کے نیچے ستاروں کے مانند چمکنے والی چیز، جلتا ہوا، بھڑکتا ہوا، شعلہ زن، مشتعل۔ الشَعِیلَۃ جمع شُعُل: بھڑکتی ہوئی آگ، جلتی

ہوئی بتی۔ الأشعلُ من الناس: وہ جس کی آنکھوں میں پیدائشی سرخی ہو۔ المُشْعَل جمع مَشَاعِل: ہاتھوں میں پکڑی ہوئی جلتی لکڑی تاکہ روشنی کی جائے، قندیل، لیمپ۔ المَشْعَلَة: چولہا۔ جمع مَشَاعِل: قندیل، لیمپ۔

۲۔ شَعَلَ - شَعْلاً الأمرَ: معاملہ کو غور سے دیکھنا۔ أَشْعَلَ السقيَ: خوب پانی پلانا۔ ۔۔۔ تِ العينُ: آنکھ کا زیادہ آنسوؤں والی ہونا۔

۳۔ شَعِلَ - شَعَلاً و اشْعَلَّ الفرسُ: گھوڑے کی دم یا پیشانی پر سفید داغ ہونا، صفت: شَاعِلٌ و شَعِيلٌ و أَشْعَلُ۔ اِشْعَلَّ اِشْعِلالاً و اِشْعَالَّ اشعيلالاً الفرسُ: گھوڑے کا دم یا پیشانی پر سفید داغ والا ہونا۔ الشَّعَل (مص): گھوڑے کی دم یا پیشانی یا کبھی گدی پر سفید داغ۔ الشُّعْلَة جمع شُعَل: بمعنی شَعَل۔

۴۔ أَشْعَلَ الجَمْعَ: جمعیت کو منتشر کرنا۔ ۔۔۔ الخيلَ في الغارة: سواروں کو چاروں طرف پھیلانا۔ ۔۔۔ تِ القِربَةُ: مشک کے پانی کا ادھر ادھر سے بہنا۔ ۔۔۔ تِ الطعنةُ: چھرے کے گھاؤ کا جگہ جگہ سے خون رسنا۔ اِشْعَلَّ اِشْعِلالاً و اِشْعَالَّ اشْعِيلالاً رأسُ الرجُلِ: کے سر کے بالوں کا کھڑا ہونا۔ کھڑے بال والا ہونا۔

۵۔ المِشْعَل و المِشْعَال جمع مَشَاعِل و مَشَاعِيل: صافی، چھلنی۔

۶۔ الشُّعْلُول جمع شَعَالِيل: آگ کا شعلہ، لوگوں کا گروہ۔ کہتے ہیں: ذهبوا شَعَالِيلَ: وہ علیحدہ علیحدہ چلے گئے۔

○ شَعَلَ - شَعْلاً و شَعَّلَ و أَشْعَلَ ہ: کسی چیز کو جلانا، روشن کرنا، آگ دکھانا، آگ لگانا، شعلہ فشاں کرنا، بھڑکانا، مشتعل کرنا۔ اِشْتَعَلَ: آگ لگنا، جلنا، آگ کا جلنے لگنا، آگ سے شعلے نکلنا، آگ کا بھڑک اٹھنا، جوش میں آنا، دفعۃً جل اٹھنا؛ آگ کا یکا یک لگ جانا، یا شروع ہونا یا پھیلنا۔ اِشْتَعَلَ غضبًا: سخت غصہ یا طیش سے لال پیلا ہونا۔ اِشْتَعَلَ رأسُهُ شَيْبًا: اس کے بال سفید تھے یا ہو گئے۔ شُعْلَة جمع شُعَل: آگ، شعلہ، لپٹ، ٹارچ (torch)۔ مَشْعَل و مَشْعَلَة جمع مَشَاعِل: ٹارچ (torch)۔ مِشْعَال: ٹارچ (torch)، مَشَاعِلي جمع مَشَاعِلِيَّة: مشعل بردار، جلاد پھانسی پر لٹکانے والا، hangman, executioner۔ مُشْتَعِل: جلتا ہوا، شعلہ فشاں، ملتہب۔

شعم: شَعَمَ - شَعْمًا الرجُلَ: لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔

شعن: ا۔ أَشْعَنَ عَدُوَّهُ: دشمن کو پیشانی سے پکڑنا۔ اِشْعَانَّ و اِشْعَنَّ شَعْرُهُ: کے بالوں کا پراگندہ ہونا۔ الشَّعَن جمع أَشْعَان: سوکھنے کے بعد جھڑے ہوئے پتے یا گھاس۔ رجُلٌ مُشْعَانُ الرأسِ: پراگندہ بالوں والا۔ شَعَرٌ مُشْعَوْنٌ: پراگندہ بال۔ الشعانين: عيد الشعانين: اتوار کی عید (عبرانی)۔

۲۔ شَعْنَبَ الكبشُ: مینڈھے کا کان کی طرف مڑے ہوئے سینگوں والا ہونا۔ صفت: مُشَعْنَب و مُشْعَنِب۔

شعا: ا۔ شَعَا - شَعْوًا الشَّعْرُ: بالوں کا کھڑا ہونا۔ شَعِيَ يَشْعَى شَعًا تِ الغارةُ: لوٹ اور غارت کا پھیل جانا۔ صفت: شَعْوَاء۔ اشْعَى القومُ الغارةَ: تخت لوٹ ڈالنا۔ الشَّاعِي (فا) م شَاعِيَة جمع شَوَاعٍ: دور، متفرق، مشترک حصہ۔ کہتے ہیں: جاءت الخيلُ شَوَاعِيَ و شَوَائِعَ: گھوڑے متفرق آئے۔ غارةٌ شَعْوَاء: دور تک پھیلی ہوئی غارت۔ شجرةٌ شَعْوَاء: پھیلی ہوئی شاخوں والا درخت۔ الشُّعَى واحد شَعْوَة: پراگندہ بالوں کے گچھے۔

۲۔ أَشْعَى به: کا اہتمام کرنا۔

۳۔ شَعْوَذَ شَعْوَذَةً: مداری کا تماشا کرنا، شعبدہ بازی کرنا۔ صفت: مُشَعْوِذ و مُشَعْوَذ۔ الشَّعْوَذَة: ہاتھ کی صفائی، شعبدہ بازی۔

○ غارةٌ او حملةٌ او حربٌ شَعْوَاء: وسیع پیمانہ کی دور تک تباہی مچانے والی جنگ یا حملہ۔

○ شَعْوَذ: شعبدہ بازی کرنا، مداری کا تماشا کرنا، شعبدے دکھانا، شیشہ گری کرنا، جھوٹ سچ ایک کر دکھانا، کرتب دکھانا، ہاتھ کی صفائی سے کام لینا، جادوگری کرنا۔ شَعْوَذَة: شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی، کرتب، جادوگری، جادو، فسوں گری۔ مُشَعْوِذ: مداری، شعبدے باز، جادوگر، فسوں گر، ساحر، ٹھگ، دھوکے باز، فریبی۔

شغ: شَغْشَغَ الشيءَ: کو اندر کرنا باہر کرنا۔ کہتے ہیں: شَغْشَغَ الطاعنُ: نیزہ باز کا زخم خوردہ کے جسم میں نیزہ کو پھیرنا، ہلانا۔ ۔۔۔ المُلْجِمُ: سوار کا جانور کے منہ میں اسے سزا دینے کے لئے لگام اندر باہر کرنا۔ ۔۔۔ في الأمر: کام میں جلدی کرنا۔ ۔۔۔ في الشرب: پینا کم کرنا۔ ۔۔۔ في الاناء ماءً او غيرَهُ: برتن میں پانی وغیرہ بغیر بھرنے کے ڈالنا۔ ۔۔۔ البئرَ: کنویں کو گدلا کرنا۔ کہتے ہیں: شَغْشَغَ شربي: اس نے میرا شروب گدلا کر دیا۔

شغب: ا۔ شَغَبَ - شَغْبًا و شَغَبًا القومَ و بهم و عليهم: لوگوں میں فتنہ و فساد برپا کرنا۔ صفت: شَغِبٌ و شِغِبٌ و شَغَّابٌ و مِشْغَبٌ و مُشَاغِب و ذو مَشَاغِب۔ ۔۔۔ شَغْبًا عن الطريق: راستے سے ہٹنا۔ شَغِبَ - شَغْبًا و شَغَبًا القومَ و بهم و عليهم: لوگوں میں فتنہ و فساد برپا کرنا۔ صفت: شَغِبٌ و شِغِبٌ و شَغَّابٌ و مِشْغَبٌ و مُشَاغِبٌ و ذو مَشَاغِب۔ شَغَّبَ القومَ و بهم و عليهم: لوگوں میں فتنہ و فساد برپا کرنا۔ شَاغَبَ ہ: سے جھگڑا کرنا اور بہت غنڈہ گردی کرنا۔ تَشَاغَبَ الرجُلُ: نافرمانی کرنا۔ کہتے ہیں: طلبت منه كذا فتشاغب: میں نے اس سے فلاں چیز طلب کی تو اس نے میری بات نہ مانی اور وہ چیز مجھے نہیں دی۔ الشَّغْب (مص) والشَّغَب (مص): بہت شور و غوغا۔ الشَّغُوب: شر انگیز، جھگڑالو۔

۲۔ تَشَغْبَرَتِ الريحُ: ہوا کا پیچ کھا کر یا بل کھاتے چلنا۔

○ شَغَبَ و شَغِبَ - شَغْبًا و شَغَبًا: امن و امان میں خلل ڈالنا، امن و امان کو درہم برہم کرنا، پریشانی یا مصیبت کھڑی کرنا، بلوہ اور فساد بھڑکانا، ہنگامہ کھڑا کرنا، اودھم مچانا، دنگا فساد کرنا۔ ۔۔۔ هم/على/ب: لوگوں کے مابین اختلاف، نزاع، ان بن، نا اتفاقی کا باعث بننا۔ شَاغَبَ: پریشانی یا مصیبت کھڑا کرنا، امن و امان درہم برہم کرنا۔ ۔۔۔ على: کے خلاف بغاوت کرنا۔ شَغَب و شَغْب: عام بے چینی، گڑبڑ، پریشانی، مصیبت، تکلیف، خلل، ہلچل، نا اتفاقی، نزاع، ان بن، بلوہ، فساد، اودھم، دھما چوکڑی، ہنگامہ، ہلچل، افراتفری، اضطراب، شورش، شور و غوغا، جھگڑا فساد، کہرام، دنگا، لڑائی، ہلڑ، شور، تو تو میں میں، مجادلہ، مناقشہ، مخاصمت، مباحثہ، قیل و قال۔ شَغَّاب: تخریب کار، تحریک میں حصہ لینے والا، بلوائی، فتنہ پرور۔ شَغُوب: سخت شور و غوغا اور بے چینی پیدا کرنے والا، ہنگامہ خیز، شورش پسند، ہنگامہ پرور، پر آشوب۔ مَشَاغِب: پریشانیاں، مصائب، فسادات، گڑبڑیں۔ مُشَاغَبَة جمع مُشَاغَبَات: بے ضابطگی، نزاع، نا اتفاقی، ان بن، لڑائی جھگڑا، گڑبڑ، فساد، پریشانی، مصیبت، بلوہ، ہنگامہ، شور و غوغا۔ ۔۔۔ على: کے خلاف بغاوت۔ مُشَاغِب: فسادی، فتنہ پرور، بلوائی، تخریب کار، تحریک میں حصہ لینے والا۔ جمع مُشَاغِبُون۔

شغر: ا۔ شَغَرَ - شُغُورًا الرجُلُ: دور ہونا۔ ۔۔۔ الناسُ: متفرق ہونا، منتشر ہونا۔ ۔۔۔ شَغْرًا و شِغَارًا ہ عن بلده: کو جلاوطن کرنا، شہر بدر کرنا۔ أَشْغَرَ

المنهلُ: چشمہ کا راستہ سے ایک طرف ہونا، دور ہونا۔ ـــ تِ الرُّفقةُ: ساتھیوں کا راستہ سے جدا ہونا۔ ـــ الحسابُ علیه: حساب کا انتشار اور پھیلاؤ کے باعث قابو میں نہ آنا۔ تَشغَّرَ البعیرُ: اونٹ کا تیز دوڑنا۔ ـــ فی امرٍ قبیحٍ: کسی بری بات پر ثابت قدم رہنا۔ اِشْتَغَرَ الامرُ: معاملہ کا بڑا اور وسیع ہونا، خلط ملط ہونا۔ الحسابُ علیه: حساب کا خلط ملط اور پیچیدہ ہونے کی وجہ سے کسی شخص کے قابو میں نہ آنا۔ الحربُ بین القومین: دونوں قوموں کے درمیان لڑائی کا وسیع پیمانہ پر چھڑنا اور سخت وسنگین ہونا۔ فی الفلاةِ: بیابان میں دور تک جانا۔ الشَّغَر و الشِّغَر: کہا جاتا ہے: تفرَّقوا شَغَرَ بَغَرَ و شِغَرَ بِغَرَ: وہ ہر طرف بکھر گئے۔ الشِّغار (مص): دھتکار، جلاوطنی۔ بئرٌ شِغارٌ و آبادٌ شِغارٌ: بہت پانی، الا بڑا کنواں یا کنویں۔ المِشْغَر: چھوٹی برچھی جس سے وحشی جانوروں کو بھگایا جاتا ہے۔

۲۔ شَغَرَ ـُ شُغُوراً تِ الارضُ: ملک کا بغیر محافظ کے ہونا۔ صفت: شاغِرة۔ ـ السعرُ: بھاؤ کا گھٹنا۔ اِناءٌ شَغارٌ: خالی برتن۔

۳۔ شَغَرَ ـَ شَغْراً الکلبُ: کتے کا ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا۔ ـ تِ الناقةُ: اونٹنی کا ایک ٹانگ اٹھا کر بچہ کو مارنا۔ شاغَرَ مُشاغَرةً و شِغاراً الرجلان علیه: دو آدمیوں کا دوڑ کر کسی پر حملہ کرنا۔ اِشْتَغَرَ علیه: پر دست درازی کر کے فخر کرنا۔

۴۔ شاغَرَ مُشاغَرةً و شِغاراً هُ: اپنی بہن یا بیٹی کو کسی کے نکاح میں اس شرط پر دینا کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی کو مہر کے بغیر اس کے نکاح میں دے گا۔

۵۔ الشَّغارة: چقماق۔ الشَّاغُور: آبشار (آرامی لفظ)۔ الشِّغِّیر: بدخلق۔

۶۔ الشَّغْرَبِیَّة: پہلوان کا اپنے مقابل کی ٹانگ میں ٹانگ ڈال کر گرانا، پچھاڑنا، لنگری مارنا۔

○ شَغَرَ ـُ شُغُوراً: (ملک کا) قلعہ بندی سے محروم ہونا، غیر محفوظ ہونا۔ (جگہ، آسامی، منصب وغیرہ کا) خالی ہونا۔ شُغُور: آسامی، خالی جگہ (vacancy)۔ شاغِر: خالی اور غیر محفوظ (ملک وغیرہ) خالی (آسامی، جگہ، منصب)۔ شَواغِر: خالی جگہیں vacancies

شغز: ۱۔ شَغَزَ ـَ شَغْزاً علیهم: سے زیادتی کرنا، پر دست درازی کرنا۔ ـ بینهم: کے درمیان فساد ڈالنا، کو بھڑکانا۔ الشَّغِیزة: سُوا۔

۲۔ شَغْزَبَ هُ: کو لنگوی مار کر گرانا، پچھاڑنا۔ تَشَغْزَبَ تِ الریحُ: ہوا کا پیچ کھا کر چلنا۔ بل کھاتے ہوئے چلنا۔

شغف: ۱۔ شَغَفَ ـَ شَغْفاً هُ: دل کی جھلی کو صدمہ پہنچنا۔ ـ فؤادَهُ: دل پر چھا جانا، غالب آنا۔ شَغِفَ ـَ شَغَفاً حبُّهُ: محبت کا دل کی جھلی تک پہنچنا۔ شُغِفَ به: کسی کی محبت میں فریفتہ ہونا۔ تَشَغَّفَ الناسَ: لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں پراگندہ کرنا۔ الشَّغْف (مص): دل کا غلاف، دل کا پردہ۔ الشَّغَف (مص): انتہائی محبت۔ شَغَفُ القلبِ: دل کا غلاف۔ الشِّغاف جمع شُغُف و أَشْغِفة: دل کا غلاف۔ سویداء قلب۔ ـ و الشُّغاف (طب): دائیں طرف کی پسلیوں کے نیچے کا درد۔ المَشْغُوف (مفع) (ب): پاگل پن کی حد تک (کا) عاشق۔ (پر) لٹو، فریفتہ، گرویدہ، (کا) پرجوش دلدادہ، (کی) محبت میں پاگل، سودائی۔

۲۔ شَغَفَ ـَ شَغْفاً الیبیسُ: خشک گھاس کا سبز گھاس والا ہونا۔

○ شَغَفَ ـَ شَغْفاً هُ: کو لٹو کرنا، فریفتہ کرنا، گرویدہ بنانا، کو کے سرگرم شوق یا عشق سے مملو کرنا۔ شُغِفَ به (حباً): کسی شخص یا چیز سے پرجوش محبت کرنا، کسی شخص سے پاگل پن کی حد تک محبت کرنا، کا گرویدہ ہونا، پر فریفتہ ہونا، کسی چیز کا از حد شوقین ہونا۔ اِنشغف به: سے بہت محبت کرنا، کا عاشق ہونا، گرویدہ ہونا، پر فریفتہ ہونا۔ شَغَف: جذباتی محبت، جذبہ، عشق، شہوانی خواہش، فریفتگی، شیفتگی، عشق، سرگرم جوش، شوق، جوش، دھن، من بسا خیال، محبت۔ شَغُوفٌ ب: جس پر کسی کے لئے پرولولہ اور پرشوق محبت، شفقت، چاہ، لگن دھن مسلط ہو، کا پاگل پن کی حد تک محبت کرنے والا، پر لٹو، کا گرویدہ۔ مشغوف ب: کا پاگل پن کی حد تک عاشق، کا جذباتی طور پر شوقین، پر لٹو، فریفتہ، کا گرویدہ۔

شغل: ۱۔ شَغَلَ ـَ شَغْلاً و شُغْلاً و أَشْغَلَ هُ بکذا: کو میں مشغول کرنا، معروف کرنا۔ ـ عنه: سے غافل کرنا۔ شُغِلَ عنه بکذا: سے غافل رہنا۔ کہتے ہیں: ما أشغَلَهُ: (وہ کتنا مصروف یا مشغول ہے!) لیکن یہ خلاف قاعدہ ہے کیونکہ مجہول صیغہ ہے اس سے تعجب کا صیغہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ شَغَّلَ هُ: کو بہت مشغول رکھنا۔ تَشَغَّلَ بکذا: میں مشغول ہونا۔ تَشاغَلَ بکذا: میں مشغول ہونا۔ ـ عنه: سے غافل ہونا۔ اِشْتَغَلَ بکذا: میں مشغول ہونا۔ ـ قلبُهُ: دل کا فکر مند ہونا، پریشان ہونا۔ الشُّغْل مشغولیت، مصروفیت، کام۔ ـ و الشُّغُل و الشَّغَل جمع أَشْغال و شُغُول: مشغولیت، مصروفیت، کام۔ الشَّاغِل (فا): مبالغہ کے لئے کہتے ہیں: انا فی شغلٍ شاغلٍ: میں بہت مشغول ہوں۔ الشَّغْلة جمع شَغَل: اسم مرة۔ الشَّغِل: مشغول، کام والا۔ الشَّغَّال: بہت کام کرنے والا۔ الأُشْغُولة و المَشْغَلة: کام (جو تمہیں مصروف رکھے)۔ المَشْغَل جمع مَشاغِل: وہ جگہ جہاں دستی کام سرانجام دیئے جاتے ہیں یا جنہیں چھوٹی صنعتیں کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات کارخانہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ المَشْغُول (مفع): بھرا ہوا۔ کہتے ہیں: مکانٌ مشغولٌ: وہ جگہ جو خالی نہ ہو، بھری ہوئی جگہ۔ مالٌ مَشْغُولٌ: تجارت میں لگایا ہوا مال۔ دارٌ مَشْغُولةٌ: آباد گھر۔ جاریةٌ مشغولةٌ: شوہر والی لڑکی۔

۲۔ اِشْتَغَلَ فیه السمُّ: میں زہر کا اثر کر جانا، سرایت کر جانا۔ ـــ الدواء فیه: میں دواء کا فائدہ مند ہونا، پر دواء کا خوشگوار اثر کرنا۔

۳۔ الشُّغْلة جمع شُغَل: کھلیان، غلہ کا ڈھیر۔

○ شَغَلَ هُ ب: کو کے ساتھ مشغول رکھنا، مصروف رکھنا۔ ـــ هُ: کو پریشان کرنا، مشغول رکھنا، مصیبت میں ڈالنا۔ ـــ ه عن: کسی کی سے توجہ ہٹانا، کو سے برگشتہ کرنا، بیگانہ کرنا۔ ـــ ه: (منصب، عہدہ جگہ وغیرہ) پر فائز ہونا، کو پر کرنا، پر رہنا، لگا رہنا، پر فائز رہنا۔ ـ ه: (توجہ) منہمک کرنا، مشغول رکھنا۔ ـ ه: دشمن کی فوج کو مشغول رکھنا۔ شُغِلَ ب: میں مصروف ہونا، مشغول ہونا، زمین کا (عمارات وغیرہ) کے نیچے آیا ہوا ہونا۔ شغِل به عن: سے توجہ کا ہٹا ہوا ہونا۔ شغَلَ نفسه ب: میں اپنے آپ کو میں مصروف رکھنا، مشغول کرنا، پر کام کرنا، کی طرف توجہ دینا۔ شغل البال: پریشان کرنا، تشویش میں ڈالنا، بے چین کرنا، بے قرار کرنا، خلل ڈالنا، درہم برہم کرنا۔ شغل الوقت ل: کے لئے وقت مخصوص کرنا، نذر کرنا، وقف کرنا۔ شَغَّلَ ه: کو مشغول کرنا، مصروف کرنا۔ ـــ ه: کو منہمک کرنا، مشغول کرنا۔ ـ ه: کو ملازم رکھنا، کو ملازمت دینا، کو کام پر لگانا۔ ـ ه: (مشین) چلانا۔ ـ ه: کوئی چیز بنانا۔ ـ ه: (مال) لگانا، سرمایہ کاری کرنا۔ شاغَلَ ه: کو مشغول رکھنا، کا خیال بٹانا، کی توجہ ہٹانا۔ أشغَلَ ه: کو مشغول رکھنا، مصروف رکھنا، کو کام پر لگانا، کو ملازم رکھنا۔ ـ ه: (عہدہ منصب) پر فائز ہونا، پر فائز رہنا۔ ـ ه: کو پر کرنا، لینا۔ ـ ه: وقت لینا۔ ـ ه: دشمن کی فوج کو مشغول رکھنا، ایک جگہ پر رکھنا۔ ـــ ه عن: کو سے ہٹانا، بیگانہ کرنا، ورغلانا، پھسلا کر لیجانا۔ أشغل البال: پریشان کرنا، تشویش میں ڈالنا، بے قرار کرنا،

بے چین کرنا، خلل ڈالنا، درہم برہم کرنا۔ تشاغل ب: اپنے آپ کو میں مشغول رکھنا، مصروف رکھنا یا میں مصروف رہنا، مشغول ہونا؛ پر توجہ کرنا، اپنے آپ کو کیلئے وقف کرنا۔ تشاغل: مصروف ہونے کا بہانہ کرنا، جھوٹ موٹ مصروف ہونا۔ انشغل ب: سے دلچسپی لینا، میں مصروف ہونا۔ اشتغل علی: کے ساتھ یا ماتحت پڑھنا۔ اشتغل: (مشین وغیرہ کا) کام کرنا، چلنا۔ اشتغل قلبه: دل بے چین ہونا، پریشان ہونا، تشویش مند ہونا۔ اِشْتُغِل به عن: کسی چیز کے باعث سے توجہ کا ہٹا ہونا۔ شُغِل: پر فائز ہونا، کو پُر کرنا، کو لینا، سے روکنا، باز رکھنا، منع کرنا، سے توجہ ہٹانا، جمع اشغال: قبضہ، عمل، مستعدی، سرگرمی، کام، نوکری، ملازمت، شُغل، سے رابطہ، تعلق، معاملہ حق۔ شُغْل شاغِل: پہلا یا اولین کام، وہ کام جو باقی باتوں سے توجہ ہٹانے والا ہو۔ اَشغالٌ شاقّةٌ: مشقت (کے کام)۔ اشغالٌ عامةٌ یا اشغالٌ عمومیةٌ: تعمیرات عامہ۔ Public works۔ شُغلٌ یَدَوِی: ہاتھ کا کام، محنت، مشقت، handwork, manual labour۔ شُغلُ ید: ہاتھ کا بنا ہوا (handmade)۔ فی شغلٍ من: میں غرق، مستغرق، کے متعلق پریشان۔ فی شغلٍ ب: میں مصروف، مشغول۔ کان فی شغل عن: میں بہت زیادہ مصروف، مشغول یا مستغرق ہونا۔ اِلْزَم شُغْلَکَ: خواہ مخواہ دخل در معقولات نہ کرو یا اپنے کام سے کام رکھو۔ mind your own business۔ شَغّال: بہت مصروف، محنتی، فعال، سرگرم، مستعد، چست جمع شَغّالون: کام کرنے والا، کارکن۔ شَغِیل جمع شَغِیلة: (شامی استعمال): کام کرنے والا، کارکن، مزدور (نچلے درجے کا) ملازم۔ مَشْغَل جمع مَشاغِل: ورک شاپ محتاج خانہ workhouse۔ مَشْغَلة جمع مشاغِل: پیشہ، مشغلہ، عمل، میدان عمل، کام، کوشش، انحراف، انتشار خیال، گہری سوچ، فکر، خلل، گڑبڑ۔ تشغیل: ملازمت، کام، پیشہ، ملازمت مہیا کرنا، کام دینا، کام پر رکھنا، چالو کرنا، چلانا (مشین وغیرہ)، پیدا کرنا، بنانا، روپیہ لگانا، سرمایہ کاری کرنا۔ انشغال: مصروف یا مشغول ہونا یا مصروف ومشغول ہونے کی حالت یا کیفیت، عمل، سرگرمی، مستعدی، بہت زیادہ کام (over work)، اندیشہ، پریشانی، تشویش۔ اِشتغال ب/ فی: میں مصروفیت یا مشغولیت یا مصروفیت یا مشغولیت کی حالت یا کیفیت کے ساتھ یا میں کام کرنا۔ وجد شاغلاً عنه فی: اس نے اس بات سے عدم توجہی فلاں بات میں پائی۔ هو فی الف شاغل عن: اسے اس کے بجائے اور ہزاروں باتوں کے متعلق سوچنا پڑتا ہے۔ کان أکبرَ شاغل له: یہ اس کی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ مشغول ب: میں مصروف، مشغول۔ ۔ عن: سے توجہ ہٹائے ہوئے، سے خیال بٹا ہوا۔ مشغول (ٹیلیفون لائن وغیرہ) مصروف۔ مشغول البال: پریشان، تشویش مند۔ المشغولات الذهبیة و الفضیّة: سونے اور چاندی کا کام۔ مشغولیة: پریشانی اندیشہ۔ مُشَغِّل: ملازم، کارکن۔ مُشْتَغِل ب/فی: میں مصروف، مصروف، ۔۔۔ : چالو حالت میں، چلتی ہوئی (مشین وغیرہ)

شغم: الشَغِم: حریص، لالچی۔ الشُغمُوم و الشِغْمِیم: لمبا، خوبصورت۔

شغن: ۱۔ الشُغْنَة جمع شُغَن: تروتازہ شاخ۔
۲۔ الشُغْنُبُ و الشُغْنُوب: نازک و تر شاخ۔

شغا: شَغا ـ شُغُوًّا و شَغِی تَشْغَی شَغَاتُ السِنُّ: دانت کا دوسرے دانتوں سے زیادہ لمبا ہونا۔ صفت: شاغِیَةٌ جمع شَواغٍ۔ أَشْغَی م شَغْواء و شَغْیاء جمع شُغْوٌ: ایک دانت دوسرے دانتوں سے لمبا رکھنے والا۔ أَشْغَی إشغاءً القومُ به: کے معاملہ میں لوگوں کی مخالفت کرنا۔ فلانٌ رأیَهُ: کی رائے کو پراگندہ کرنا۔ الشَغْواء (ح): عقاب (کیونکہ اس کی اوپر کی چونچ نچلی چونچ سے زیادہ لمبی ہوتی ہے)۔

شف: ۱۔ شَفَّ ـ شُفُوفًا و شفیفًا و شَفَفًا الشیءُ: چیز کا اس قدر پتلی اور شفاف ہونا کہ دوسری طرف کی چیز دکھائی دے۔ صفت: شَفِیف و شَفّاف۔ ۔۔۔ ـ شُفُوفًا الجسمُ: جسم کا لاغری سے پتلا ہونا۔ ـ شَفًّا و شُفُوفًا ہُ المرضُ او الهمُّ: بیماری یا غم کا کسی کو دبلا کرنا، کمزور کرنا۔ شَفَّفَ ہُ المرضُ او الهمُّ: بیماری یا غم کا کسی کو دبلا کرنا، کمزور کرنا۔ اِسْتَشَفَّ ہُ: کے دوسری طرف کی چیز دیکھنا۔ ۔ له السترُ: کو پردے کے پیچھے کی چیزیں نظر آجانا۔ ۔۔۔ الثوبَ: کپڑے کا عیب دیکھنے کے لئے اس کو روشنی میں پھیلانا۔ ۔۔۔ الشیءَ: کو غور سے دیکھنا۔ ۔۔۔ الکتابَ: کتاب میں لکھی ہوئی باتوں پر غور وخوض کرنا۔ الشَفّ و الشِفّ جمع شُفُوف: کپڑا، باریک پردہ۔ کہتے ہیں: ثوبٌ شَفٌّ و شِفٌّ: باریک کپڑا۔ الشَفَف: ہلکا پن، تنگ حالی، ثوبٌ شَفِیفٌ: باریک کپڑا۔

۲۔ شَفَّ ـ شَفًّا الشیءُ: زیادہ ہونا، کم ہونا (ضد)۔ کہتے ہیں: شففتَ علیه: تو اس پر برتر ہوگیا۔ أشَفَّ الدرهمَ: درہم کو زیادہ کرنا، کم کرنا (ضد)۔ ۔۔۔ ہُ علی فلان: کو فلاں پر فوقیت دینا۔ ۔ علی فلان: پر برتری اور فوقیت لیجانا۔ اِسْتَشَفَّ فی تجارته: تجارت میں فائدہ حاصل کرنا، نفع اٹھانا، کمانا۔ الشَفّ و الشِفّ جمع شُفُوف: زیادتی نقصان (ضد) نفع، منافع۔

۳۔ شَفَّ ـ شَفًّا الشیءُ: کم ہونا (ضد) کہتے ہیں: هذا درهمٌ یشِفّ قلیلاً: یہ درہم تھوڑا سا کم ہے۔ ۔۔۔ شُفُوفًا و شَفِیفًا و شَفَفًا عنه الثوبُ: کپڑے کا سے چھوٹا ہونا۔ أشَفَّ الدرهمَ: درہم کو زیادہ کرنا یا کم کرنا (ضد)۔ الشَفّ جمع شُفُوف: کمی، زیادتی۔ الشِف: آسان بات یا چیز۔ ۔۔۔ جمع شُفُوف: کمی، زیادتی (ضد)۔ الشَفَف: تھوڑا۔ الأشَفّ: اسم تفضیل۔ کہتے ہیں: فلانٌ أشف من فلان: فلاں فلاں سے تھوڑا سا بڑا ہے۔

۴۔ شَفَّ ـ شَفِیفًا فمُ فلان: سردی کی وجہ سے دانتوں اور مسوڑھوں میں درد ہونا۔ الشَفّان: بارش والی ٹھنڈی ہوا۔ الشَفِیف جمع شِفاف (ضد): ٹھنڈی ہوا، سردی کی شدت، سورج کی گرمی کی تیزی۔

۵۔ شَفَّ ـ شَفًّا الشیءُ: چیز کا حرکت کرنا۔ ۔۔۔ له الامرُ: قائم رہنا، دائم رہنا، ہمیشہ رہنا۔

۶۔ شَفَّ ـ شَفًّا و شُفُوفًا الماءَ: سب پانی پی جانا۔ تَشافّ و اشتفّ ما فی الاناء: برتن کی سب چیز پی جانا۔ کہا جاتا ہے: اِستفّ البعیرُ الحزامَ: اونٹ نے سارے تنگ کو گھیر لیا۔ ضرب المثل ہے: لیس الریُّ عن التشافّ: جس قدر پینے والا پیتا ہے اس سے پیاس نہیں بجھتی۔ اسی طرح امور کی پوری تحقیق پر بھی محقق کی سیری نہیں ہوتی۔ اِسْتَشَفَّ ما فی الاناء: برتن کی ہر چیز پی جانا۔ ۔۔۔ إلیه: کی پوری پوری رغبت کرنا۔ الشُفافة: برتن کا باقی ماندہ پانی۔ شُفافةُ النهار: دن کا بقیہ حصہ۔

۷۔ أشَفَّ الفمُ: منہ کا بدبودار ہونا۔ الشَفّ و الشِفّ جمع شُفُوف: بدبودار پھنسی۔ المَشْفُوف: بدبودار پھنسیوں والا جسم۔

۸۔ شَفْشَفَ به: سے مل جانا، خلط ہونا۔ ۔۔۔ الرجلُ: کانپنا۔ ۔۔۔ علیه: پر ترس کرنا، سے ہمدردی کرنا، کے بارے میں اندیشہ کرنا، پریشان ہونا۔ ۔۔۔ الدواء علی الجرح: دوا زخم پر چھڑکنا۔ ۔۔۔ الهمُّ فلاناً: غم کا کسی کو لاغر کرنا۔ ۔۔۔ الصقیعُ النباتَ: پودے کو

پالے کا مارنا۔ خشک کرنا اور جلا ڈالنا۔۔۔ الحرُّ او البردُ الشیءَ: گرمی یا سردی کا چیز کو خشک کر دینا۔ تَشَفْشَفَ النباتُ: پودے کا سوکھنے لگنا۔ الشَفْشاف: اولوں والی بارش، (عام لوگ اسے الشفاف کہتے ہیں) سرد ہوا۔ ثوبٌ شَفْشَافٌ: جھنا کپڑا، چھدری بناوٹ کا کپڑا۔

۹۔ شَفْشَفَ الرجلُ: آدمی کا بد خلق ہونا۔ صفت: مُشَفْشِف و مُشَفْشَف۔

شَفَّ ۔ شُفُوفًا و شَفِیفًا و شَفَفًا: باریک ہونا، نازک ہونا، شفاف ہونا، صاف شفاف ہونا۔۔۔ عن: کو ٹمٹمانے دینا، کا انکشاف کرنا، ظاہر کرنا، کو منظر عام پر لانا، کا راز افشا کرنا۔ اِشْتَفَّ ہ: کو پی جانا، پی لینا، خالی کر دینا، کو بے تحاشا کھا جانا۔ اِسْتَشَفَّ ہ: کو اس کی اچھی بری قسم کا پتہ چلانے کے لئے دیکھنا، کی جھلک دیکھنا، کی امید ہونا، کو خوب سمجھنے کی کوشش کرنا، کی تہہ کو پہنچنے کی کوشش کرنا، کے آر پار ہونے کی کوشش کرنا، کو دیکھنا، سمجھنا۔۔۔ من: سے ٹمٹمانا۔ اِسْتَشَفَّ: اپنے آپ کو واضح کرنا، محسوس اور واضح ہونا، قابل ادراک ہونا، نمایاں ہونا۔ شَفّ و شِفّ جمع شُفُوف: شفاف کپڑا، جالی۔ شَفَف: شفافیت۔ شُفُوف: شفافیت۔ شُفافة: گلاس میں بچی ہوئی چیز۔ شَفّاف: باریک، نازک، شفاف۔ شَفّافیة: شفافیت۔

شفت: ا۔ شَفْتَرَ القومُ: لوگوں کا متفرق ہونا، منتشر ہونا۔ اِشْفَتَرَّ القوم: لوگوں کا متفرق ہونا، منتشر ہونا۔۔ العودُ: لکڑی کا ٹوٹنا۔ السراجُ: چراغ کا چوڑی بتی والا ہونا۔

۲۔ شَفْتَرَ: غصہ اور رنجش سے ہونٹوں کو موٹا کر کے باہر کی طرف نکالنا، ناک بھوں چڑھانا، روٹھنا۔ صفت: مُشَفْتِر (عام زبان میں)۔ الشَفْتَرة: ہونٹوں کا موٹا اور باہر کو نکلے ہوئے ہونا۔

شفر: ا۔ شَفِرَ ۔ شَفارةً: گھٹنا کم ہونا۔ شَفِرَ المالُ: مال کا کم ہونا اور جاتا رہنا۔۔۔ الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ عیشٌ مُشَفَّرٌ: تنگ زندگی۔

۲۔ شَفَّرت الشمسُ: سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ ۔ علی الامر: کام کی طرف متوجہ ہونا۔

۳۔ الشَفْر و الشُفْر جمع اَشْفار (ع ا): پلک کی جڑ، ہر چیز کا کنارہ۔۔ من الوادی: وادی کا اوپری کنارہ۔ کہتے ہیں: ما فی الدار شَفْرٌ و شُفْرٌ: یعنی گھر میں کوئی بھی نہیں۔ الشَفْرةُ جمع شَفْر و شِفار و شَفَرات: بڑی اور چوڑی چھری، تلوار کی دھار، نیزے کے پھل کا پہلو، موچی کی رانپی۔ کہتے ہیں: ما فی الدار شَفْرةٌ: یعنی گھر میں کوئی بھی نہیں۔ الشفیر: پلک کی جڑ، ہر چیز کا کنارہ۔۔ من الوادی: وادی کا اوپری کنارہ۔ المِشْفَر جمع مَشافِر: شدت، روک، زمین یا ریت کا ایک قطعہ۔ (ع ا) (اونٹ کا) ہونٹ۔

شُفْر جمع اَشْفار: پلکیں اگنے کی جگہ، پپوٹے کا (بیرونی) کنارا، کنارا (پیالے، پہیے وغیرہ کا) کنارا (rim) حاشیہ، جھالر۔ شُفر جمع اَشْفار: وہ حاشیہ جہاں سے پلکیں اگتی ہیں، پپوٹے کا (بیرونی) کنارا، کنارا، (پیالے پہیے وغیرہ) کا کنارا (rim) جھالر۔ شَفْرة جمع شَفَرات و شِفار: بڑا چاقو (تلوار چاقو وغیرہ کا) پھل (blade)، ریزر بلیڈ، جمع شِفار کنارا۔ علی شفرة الهاویة: پاتال کے کنارے پر، برلب جہنم۔ شفیر: وہ حاشیہ جہاں سے پلکیں اگتی ہیں، پپوٹے کا (بیرونی) کنارا، کنارا، (پیالے پہیے وغیرہ کا) کنارا (rim)، جھالر، حاشیہ۔ مِشْفَر جمع مَشافِر: تھوتھنی، سونڈ۔ شِفْر (فرانسیسی): خفیہ تحریر یا رسم الخط۔ شِفری: خفیہ تحریر یا رسم الخط میں۔ شِفْرة: خفیہ تحریر یا رسم الخط۔

شفز: شَفَزَ ۔ شَفْزًا ہ: کولات مارنا۔

شَفْشَفَ ہ: کو خشک کرنا۔

شَفَطَ: چوسنا، جذب کرنا، خالی کرنا، پی لینا، چسکی لگانا۔ شَفّاطة جمع شَفّاطات: سیفن (siphon) خم دار نلکی۔ شَفّاطةُ الغُبار: گردش (vacuum cleaner)۔

شفع: ا۔ شَفَعَ ۔ شَفْعًا الشیءَ: کو جفت کرنا، دوہرا کرنا۔ کہتے ہیں: کان وترا فشفعه بآخر: وہ طاق تھا تو اس نے ایک اور ملا کر اسے جفت کر دیا۔ و ... ت الناقةُ: اونٹنی کا بچہ رکھتے ہوئے حاملہ ہونا۔ ... جارهُ: پڑوسی کو حق شفع دینا۔ شُفِعَ: کہتے ہیں: شُفِعَ لِیَ الاَشخاص: یعنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے ایک چیز کا دو دکھائی دینا، ایسی آنکھ کو شافعہ کہتے ہیں۔ شَفَّعَ الشیءَ: کسی چیز کو جفت بنانا۔ الشَفْع (مص) ج اَشْفاع و شِفاع: جفت عدد۔ کہتے ہیں: اَشَفْعٌ هو اَم وَتْرٌ: کیا وہ جفت ہے یا طاق۔ ناقة شافِع (فا): پیٹ میں چھوٹے بچہ والی حاملہ اونٹنی۔ عینٌ شافِعةٌ: ضعف بصارت کی وجہ سے ایک کو دو دیکھنے والی آنکھ۔ الشُفْعةُ جمع شُفَع عند الفقهاء: زمین یا مکان کی ہمسائیگی کی وجہ سے (ہمسایہ کا) حق خرید۔ حق شفعہ۔ من الضُحی: چاشت کی دو رکعتیں۔ ناقةٌ شَفُوعٌ: ایک ہی مرتبہ دودھ میں دو برتن بھرنے والی اونٹنی۔ الشفیع من العدد: جفت عدد۔۔ جمع شُفَعاء: حق شفعہ والا۔

۲۔ شَفَعَ ۔ شَفاعةً لفلان أو فیه إلی زید: کی زید سے سفارش کرنا۔۔ علیه بالعداوة: کے برخلاف مدد دینا۔ کہتے ہیں: فلانٌ یعادینی وله شافعٌ: یعنی فلاں کا ایک مددگار ہے جو اسے میرے خلاف دشمنی میں مدد دیتا ہے۔۔ لفلان فی المطلب: کسی کے لئے کوشش کرنا۔ شَفَّعنی فی فلان: (کسی کا) فلاں کے بارے میں (میری) سفارش مان لینا۔ تشَفَّع لی و إلیَّ بفلان او فی فلان: (کسی کا فلاں کے بارے میں سفارش کرنے کے لئے مجھ سے) کہنا۔ اِسْتَشْفَعَ زیداً إلی عمرو: (کسی کا زید کو عمرو سے) سفارش کرنے کے لئے کہنا۔۔ بفلان علی فلان: کسی سے کسی کے خلاف مدد چاہنا۔ الشفیع جمع شُفَعاء: سفارش کرنے والا۔ المُشَفَّع: جس کی سفارش قبول کی جائے۔ المُشَفِّع: سفارش قبول کرنے والا۔

۳۔ الشُفْعَة جمع شُفَع: جنون، پاگل پن، دیوانگی، آنکھ۔ الأَشْفَع: لمبا، دراز۔ المَشْفوع: دیوانہ مجنون۔ اِمرأة مَشْفُوعة: وہ عورت جس کو نظر بد لگی ہو۔

شَفَعَ ۔ شَفْعًا ہ: کو دگنا کرنا۔۔ ہ ب: کے ساتھ کچھ منسلک کرنا، نتھی کرنا، جوڑنا، بڑھانا، شامل کرنا، آخر میں جوڑ دینا یا لگا دینا۔۔ ہ ب: کو کسی چیز پر حق شفعہ دینا، کو کسی چیز کے سب سے پہلے مسترد کرنے کا حق دینا۔۔ شَفاعَةً: کے ساتھ (الی) کے لئے، کی خاطر، یا کی طرف سے۔ (فی/ل): ثالثی کرنا، کے ساتھ کی خاطر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا، سے کسی کی خاطر سفارش کرنا، شفاعت کرنا، بیچ میں پڑنا، سے کے لئے التجا کرنا۔ تَشَفَّعَ فی/ل الی: کے ساتھ کے لئے، کی خاطر یا کی طرف سے ثالثی کرنا، کے ساتھ، کی خاطر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا، سے کسی کی سفارش کرنا، یا شفاعت کرنا، سے کی خاطر التجا کرنا۔ شفیع: ثالث، مصالحت کی کوشش کرنے والا، سفارش کنندہ، شفاعت کنندہ، حامی، موید، سرپرست ولی (عیسائیت میں)، حق شفعہ رکھنے والا۔ شَفاعة: ثالثی، مصالحت کی کوشش، سفارش، شفاعت، بیچ میں پڑنا، حمایت، تائید۔ شافِع: ثالث، بیچ میں پڑنے والا، سفارش کنندہ، شفاعت کنندہ، حامی، موید، حق شفعہ رکھنے والا۔ الشافِعی: چار اسلامی مذاہب فقہ میں سے ایک کا بانی، شافعی مذہب کا یا اس سے متعلق یا

اسے منسوب۔ جمع شافعیون یا شوافع: شافعی مذہب کا پیروکار۔ مشفوع ب: کے ہمراہ، سے یکجا، کا حامل۔

شفق: ا۔ شَفِقَ ـ شَفَقًا علیه: کی اصلاح و بھلائی کی فکر میں ہونا، پر مہربان ہونا۔ صفت: شَفِقٌ و شَفُوقٌ و شَفِیقٌ۔ ـ من الامر: سے خوف کرنا، کی حرص کرنا۔ ـ علی الشیءِ: میں بخل کرنا۔ شَفَّقَ هُ: کو رحم دلانا۔ ـــ الشیءَ: کم کرنا۔ أَشْفَقَ علی الصغیر: چھوٹے پر رحم کھانا، مہربان ہونا۔ أَشْفَقَ علیه و منه: سے ڈرنا کا لالچ کرنا۔ الشَّفَقُ جمع أَشْفَاق: خوف، مہربانی۔ الشَّفَقَة: مہربانی، رحم، خوف کے ساتھ مہربانی۔ کہتے ہیں: اخذتنی منه شفقة: مجھ کو اس پر رحم آیا۔ ترس آنا۔ ولی علیه سفقة: مجھے اس پر ترس آتا ہے۔

۲۔ أَشْفَقَ الرجُلُ: آدمی کا شفق کا وقت پانا۔ الشَّفَق: غروب آفتاب کے بعد آسمان افق پر سرخی۔ ـــ جمع أَشْفَاق: دن۔

۳۔ شَفَّقَ الثوبَ: کپڑا خراب بننا۔ الشَفَق جمع أَشْفَاق: ردی چیز۔ ثوبٌ شَفَقٌ: کمزور کپڑا۔

۴۔ أَشْفَقَتِ الریحُ: ہوا کا تیز چلنا اور مٹی ساتھ لیجانا۔

۵۔ الشَفَق جمع أَشْفَاق: کنارہ۔

⃝ أشفق علی: پر ترس کھانا، پر رحم کرنا، کی غمگساری کرنا، سے ہمدردی کرنا، سے ہمدردی رکھنا۔ ـــ أن: پریشان ہونا کہ۔ ـــ علی: پر پریشان ہونا۔ ـــ ان: افسوس کرنا کہ۔ ـــ علی: کے بارے میں افسوس کرنا۔ ـــ ان. خوف کرنا کہ۔ ـــ علی: کے لئے ڈرنا۔ من: (سے) ـــ علی: کے بارے میں پریشان ہونا، (من) کے نتیجہ کے طور پر۔ ـــ من: سے بچنا، سے پہلوتہی کرنا، سے کنی کرتانا، سے گریز کرنا۔ ـــ من: سے خبردار ہونا، آگاہ ہونا، سے چوکنا چوکس، یا ہوشیار ہونا۔ شفقة: رحم، ترس، ہمدردی، مہربانی۔ سفقت عدیم الشفقة: بے رحم۔ شَفُوقٌ و شَفِیقٌ: رحم دل، ترس کھانے والا، اظہار ہمدردی کرنے والا، پیارا، محبت، محبت آمیز، محبت کا، ہمدردی کا متردد، کا خواہاں، دل سے آمادہ، کا بڑا خیال رکھنے والا، مہربان، مشفق شفیق۔ اِشْفَاق: رحم، ترس، ہمدردی، مہربانی، رحم دلی، محبت، پیار، چاہت، فکر مندی، پریشانی، تشویش، اندیشہ۔

شفن: ا۔ شَفَنَ ـ و شَفِنَ ـ شُفُونًا الرجلَ و إلی الرجلِ: کو ترچھی نگاہ سے دیکھنا۔ صفت: شَافِن و شَفُون۔ الشَّفَن: انتظار، میراث کا منتظر۔ ـــ والشَّفِن: عقلمند، دانا۔ الشَّفُون جمع شُفُن: بہت غیرت مند۔

۲۔ الشَّفَنْتَرِیُ و الشَّفَنْتَرَی: متفرق۔

⃝ شَافِن: خوددار، غیرتمند۔

شفه: ا۔ شَفَهَ ـ شَفْهًا فلانًا: کے ہونٹ پر مارنا۔ شَافَهَ شِفَاهًا و مُشَافَهَةً هُ: سے منہ در منہ بات کرنا۔ ـــ الشیءَ: کے قریب ہونا، کو قریب کرنا، نزدیک لانا۔ الشَّفَة و الشِّفَة من الانسان: ہونٹ، تثنیہ: شَفَتَان جمع شِفَاه و شَفَهَات: نسبت کے لئے: شَفِیّ و شَفَهِیّ و شَفَوِیّ: تصغیر: شُفَیْهَة: کہتے ہیں: ما کَلَّمَهُ بِبِنتِ شفة: یعنی اُس نے اس سے ایک بات بھی نہیں کی۔ الشَّافِهُ: پیاسا۔ الشُّفَاهِیّ و الأَشْفَهُ: بڑے ہونٹوں والا۔ الحروف الشَّفَهِیَّة: لبوں سے نکلنے والے حروف جیسے ب، ف، م۔ مَاءٌ مَشْفُوهٌ: ایسا پانی جس پر بہت پینے والے آتے ہوں۔

۲۔ شَفَهَ ـ شَفْهًا فلانًا: سے سوال کر کے سب کچھ خرچ کرا دینا۔ ـــ الإناءَ: برتن کا سارا پانی پی جانا۔ کہتے ہیں: کادت العیال تشفه مالی: قریب ہے کہ میرے عیال میرا مال ختم کر دیں۔ ـ هُ عن الامر: کام سے کسی کی توجہ ہٹانا۔ شُفِهَ زیدٌ: زید کا بہت سے سائلین رکھنا۔ ـــ الشیءُ: چیز کے طلبگاروں کا زیادہ ہونا۔ ـ الطعامُ: کھانے کے بہت سے کھانے والے ہونا۔ صفت: مَشْفُوهٌ۔ الشَّفَة: کہتے ہیں: هو خفیف الشَّفَة: سوال کرنے میں بہت اصرار کرنے والا یا کم سوال کرنے والا۔ له فی الناس شفة حسنة: وہ لوگوں میں اچھی شہرت رکھتا ہے۔ ما أحسنَ شَفَةَ الناس علیك: لوگ تمہارے کتنے مداح ہیں۔ مَاءٌ مَشْفُوهٌ: پانی جہاں بکثرت آمد ممنوع ہو۔ کہتے ہیں: هو مَشْفُوهُ الموارد: وہ بڑا مہمان نواز اور بہت بخشش والا ہے۔ فلانٌ مَشْفُوهٌ عنا: فلاں ہم سے غافل ہے۔ اس کے پاس لوگوں کی بکثرت آمد ہے۔

۳۔ شَفَةُ الشیء کالدلو: ڈول جیسی چیز کا کنارا۔

⃝ شَفَهِیّ: زبانی۔ الشَّفَهِیّ: زبانی امتحان (orals)۔ شَفَهِیًّا: زبانی (orally)۔ شِفَاهًا: زبانی (orally)۔ شِفَاهِیّ: زبانی۔ الشِّفَاهِیّ: زبانی امتحان (orals)۔ شِفَاهِیًّا: زبانی (orally)۔ مُشَافَهَةً: زبانی (orally)۔

شفا: ا۔ شَفَا ـ شُفُوًّا الهلالُ: چاند نکلنا۔ ـــ الشخصُ: ظاہر ہونا۔

۲۔ شَفَا ـ شَفَوَاتِ الشمسُ: سورج کا غروب ہونے لگنا۔ الشَّفَا: چاند کا بقیہ حصہ جو ابھی غروب نہ ہوا ہو۔ جس کا تثنیہ شَفَوان اور جمع أَشْفَاء ہے: ہر چیز کا کنارا اور حد، آدمی کی موت، چاند کی آخری راتوں میں ہونے اور سورج کے غروب کے وقت کہا جاتا ہے: مابَقِیَ منه إلّا شفًا: وہ تھوڑا سا رہ گیا۔

۳۔ الأَشْفَی: جس کے ہونٹ آپس میں نہ ملتے ہوں۔

شفی: ا۔ شَفَی ـ شِفَاءً اللّٰهُ فلانًا من مرضه: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیماری سے صحت یاب کرنا۔ ـــ فُلانٌ فلانًا: کسی کا کسی کے لئے صحت یابی کا طالب ہونا۔ شُفِیَ المریضُ: بیمار کا صحت یاب ہونا، تندرست ہونا۔ أَشْفَی إِشْفَاءً فلانًا: کی شفا طلب کرنا۔ ـ العلیلُ: مریض کا صحت پانے سے رکنا، مریض کا صحت نہ پانا۔ أشفی المریضَ: مریض کو دوا بتانا۔ کہتے ہیں: أَشْفِنی: مجھے ایسی چیز دو جس سے شفا ہو جائے۔ ـــ هُ الشیءَ: کو کوئی صحت بخش چیز دینا۔ تَشَفَّی بکذا: سے شفا حاصل کرنا۔ ـ من غَیْظِه: کا غصہ ٹھنڈا ہونا۔ کہتے ہیں: تَشَفَّی من فلان: دشمن کو ایذا دے کر دل ٹھنڈا کرنا۔ اِسْتَشْفَی بکذا: سے شفایاب ہونا۔ اِسْتَشْفَی اِسْتِشْفَاءً به: سے شفا چاہنا۔ کہتے ہیں: فلانٌ یُسْتَشْفَی برأیه: فلاں کی رائے سے شفا حاصل کی جاتی ہے۔ ـــ المریضُ من علّته: مریض کا بیماری سے تندرست ہونا۔ الشِفاء (مص) جمع أَشْفِیَة و جمع الجمع أَشَافٍ: دواء۔ الشافی من الادویة و نحوها: فائدہ مند دوا وغیرہ۔ الجوابُ الشافی: تسلی بخش جواب۔ المُسْتَشْفَی جمع مُسْتَشْفَیَات: ہسپتال۔

۲۔ شَفَی ـ شِفَاءً تِ الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ ـــ و شَفِیَ ـ شَفًی الهلالُ: چاند کا غروب ہونا۔ أَشْفَی إِشْفَاءً علیه: کے قریب ہونا۔ جیسے: أشفی المریضُ علی الموت: بیمار کا موت کے قریب آ پہنچنا، مرنے لگنا۔ ـ المسافرُ: مسافر کا آخری رات کی چاندنی میں چلنا۔

۳۔ الأَشْفَی جمع أَشَافٍ: ستالی، برما۔

⃝ أَشْفَی علی: کے بہت قریب ہونا، کے کرنے ہی کو ہونا، کے برلب ہونا۔ أَشْفَی به علی حافة الیأس: اس نے اسے مایوسی تک پہنچا دیا۔ شَفًا جمع أَشْفَاء: کنارا، کے قریب ہونا، کے برلب ہونا۔ شَفَوِیّ: زبانی۔ شَفَوِیًّا: زبانی (orally)۔ الحروف الشفویة: شفوی حروف۔ دیکھو

الحروف الشفهية۔ مُشْفٍ: جس پر موت طاری ہو، جانکنی کی حالت میں، حالتِ نزع میں، جس پر سکوتِ مرگ طاری ہو یا مردنی چھا رہی ہو، قریب المرگ۔ شُفِيَ: روبصحت ہونا، صحت یا طاقت بحال ہوجانا۔ شَفِي غُلَّتَهُ (غليلَهُ): اپنی پیاس بجھانا، اپنی خواہش کی تسکین کرنا، انتقام کی خواہش پوری کرنا۔ شَفِي غَيْظَهُ من: پر غصہ اتارنا۔ تَشَفّي و اِشْتَفي ب: سے صحت یاب ہونا، سے صحت بحال ہونا۔ — من: سے انتقام لینا، پر غصہ اتارنا، سے انتقام کی خواہش پوری کرنا۔ شِفاء: صحت یابی، خواہش کی تکمیل، تسکین جمع اَشْفِية: علاج، معالجہ، دوا۔ قابل للشفاء: قابل علاج۔ مَشْفًي جمع مَشافٍ: ہسپتال۔ تَشَفٍّ: انتقام کی خواہش کی تسکین۔ شافٍ: صحت یاب کرنے والا، شفابخش، فائدہ بخش، واضح غیر مبہم (جواب)۔ مُسْتَشْفًي جمع مُسْتَشْفَيات: ہسپتال، فیلڈ ہسپتال، دق کے مریضوں کا دارالصحت یا دارالشفاء، سینیٹوریم (sanatorium) مُسْتَشْفَي المجاذيب: دماغی ہسپتال meental hospital۔ پاگل خانہ: insane asylum۔

شقّ: ۱۔ شَقَّ ـُ شَقًّا الشيءَ: کو پھاڑنا، متفرق کرنا۔ اسی سے ہے: شَقَّ عصا القومِ: اس نے قوم کی جمعیت کو منتشر کردیا۔ شق فلان العصا: فلاں جماعت سے الگ ہوگیا۔ شق الصبحُ: صبح کا طلوع ہونا۔ — الارضَ بالسِّكّة (ز): زمین کو ہل کی پھال سے پھاڑنا۔ — على المريض: بیمار کی عدم موجودگی بری طرح محسوس کرنا۔ — شُقُوقًا النبتُ: نبات کا زمین سے نکلنا یعنی اُگنا۔ — نابُ البعير: اونٹ کا دانت نکلنا۔ — شَقًّا و مَشَقَّةً البرقُ: بجلی کا آسمان کے درمیان سیدھا چمکنا۔ — الفرسُ: گھوڑے کا رفتار میں ایک طرف جھکنا۔ شَقَّقَ الحطبَ: لکڑی پھاڑنا، چیرنا۔ — الكلامَ: بات برملا کہنا۔ شاقَّ شِقاقًا و مُشاقَّةً: کی مخالفت کرنا اور سے دشمنی رکھنا۔ تَشَقَّقَ الحطبُ: لکڑی کا پھٹنا، چرنا۔ کہتے ہیں: شَقَّقْتُهُ فتشقق: میں نے اسے پھاڑا تو وہ پھٹ گیا۔ کہتے ہیں: تَشَقَّقَتْ عصاهم بالبين: ان کا معاملہ تتر بتر ہوگیا، ان کی جماعت اختلاف کی وجہ سے پراگندہ ہوگئی۔ تَشاقَّ القومُ: باہم مخالفت کرنا، آپس میں عداوت رکھنا۔ — الرجلان: آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھنا، خوب جھگڑنا۔ تَشاقُّوا ثيابَهم: ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دینا۔ اِشْتَقَّ الشيءَ: آدھا لینا۔ — الفرسُ في عدوه: گھوڑے کا دوڑنے میں دائیں بائیں جانا۔ الكلمةَ من الكلمة: ایک کلمہ کو دوسرے سے مشتق کرنا۔ جیسے: اشتق ضَرَبَ من الضَّرْب: اس نے مصدر ضرب سے فعل میں ضَرَبَ مشتق کیا۔ — في الكلام او الخصومة: کلام یا خصومت میں اپنے نکتہ سے ہٹ جانا۔ — الطريقَ في الفلاة: بیابان میں راستہ طے کرنا۔ اِنْشَقَّ الشيءُ: چیز میں شگاف پڑنا، دراڑ آنا۔ — الفجرُ: صبح کا طلوع ہونا۔ — الامرُ: پراگندہ ہونا۔ کہتے ہیں: اِنْشَقَّتْ عصاهم: ان کا معاملہ پراگندہ ہوگیا۔ الشَّقّ (مص) جمع شُقُوق: دراڑ، پھٹن، شگاف، درز، تڑخن، پھٹی ہوئی جگہ، صبح، ہر چیز کا آدھا۔ الشِّق: انسان کی ایک طرف۔ دو حصوں میں پھٹی ہوئی چیز کا ایک حصہ، کنارا، اس چیز کا نام جسے آپ دیکھیں۔ ہر چیز کا نصف۔ کہتے ہیں: المال بيني و بينك شِقَّ أو شَقَّ شَعرةٍ: مال میرے اور تمہارے درمیان برابر برابر ہے۔ الشُّقَّة جمع شُقَق: مسافت۔ الشُّقَّةُ الساعِيَة (فلك): ایک گھنٹہ کی مسافت جس کا تعین طول کے دو خطوں کے مابین پندرہ درجوں سے کیا جاتا ہے، جو منطقہ کو محدود کرتے ہیں۔ الشِّقَّة جمع شِقَق و شِقاق: کپڑے وغیرہ کا لمبا ٹکڑا، دھجی، پھٹا ہوا نصف حصہ۔ — جمع شُقَق: مسافت۔ الشقيق: دو حصوں میں پھٹی ہوئی چیز کا ایک حصہ۔ جمع اَشِقّاء: سگا بھائی، نظیر۔ الشَّقِيقة جمع شَقائِق (طب): آدھے سر کا درد، بہن، باغات کے درمیان سخت زمین، شدید بارش۔ — من البرق: افق میں پھیل جانے والی بجلی۔ شَقائِقُ النعمان (ن): گل لالہ۔ الاشق من الخيل: دائیں بائیں دوڑنے والا گھوڑا۔ فرس اشقُّ المنخرين: کشادہ نتھنوں والا گھوڑا۔

۲۔ شَقَّ ـُ شَقًّا و مَشَقَّةً الامرُ: کام کا دشوار ہونا۔ — على فلان: کو مشقت میں ڈالنا۔ الشَّقّ جمع شُقُوق: مشقت۔ الشِّقّ: مشقت۔ الشِّقَّة والشُّقَّة جمع شُقَق: مسافت، وہ رخ جس کا مسافر قصد کرے، دور کا سفر، مشقت، وہ راستہ جس کا طے کرنا راہرو کے لئے دشوار ہو۔ المَشَقَّة و المشقّة جمع مَشاقّ و مَشَقّات: صعوبت، تکلیف، سختی، مشکل، محنت مشقت، جانفشانی، مصیبت پریشانی، زحمت۔

۳۔ تَشَقَّقَ الفرسُ: گھوڑے کا لاغر ہونا۔

۴۔ الشِّقّ (ح): بن مانس۔

۵۔ شَقْشَقَ شَقْشَقَةً الجملُ: اونٹ کا بلبلانا۔ الطيرُ: پرندہ کا آواز نکالنا۔ عوام کہتے ہیں: شقشقت الغاسلةُ الثيابَ او الاناء: یعنی دھونے والی نے بالآخر کپڑے اور برتن پانی سے دھوئے تاکہ صابن کا اثر جاتا رہے۔ الشِّقْشِقَة جمع شَقاشِق: اونٹ کے منہ کا جھاگ جو وہ مستی کے وقت نکالتا ہے۔ فصیح شخص کے لئے کہا جاتا ہے: هدرت شِقْشِقتهُ و فلانٌ شِقْشِقَةُ قومِهِ: فلاں اپنی قوم میں شریف اور فصیح ہے۔

⊙ شَقَّ على: کیلئے بھاری، سخت یا نا قابل برداشت ہونا، کو رنجیدہ کرنا، دکھ پہنچانا، دق کرنا، پریشان کرنا، تکلیف دینا، کو ملنا، سے ملاقات کو جانا۔ شَقَّت جَيْبَها: عورت کا ماتم کرتے ہوئے گریباں پھاڑ دینا۔ شقّ سبيلاً: اپنے لئے راستہ نکالنا۔ شَقَّ السكونَ: خاموشی توڑنا۔ شَقَّ شارعًا (طريقًا): سڑک یا گلی تعمیر کرنا، بنانا۔ شَقَّ طريقه: اپنے راستہ پر چلتے چلے جانا۔ شَقَّ طريقًا جديدا: نئے راستہ میں داخل ہونا، یا نیا راستہ کھولنا۔ شقَّ العصاء: قوم سے الگ ہوجانا۔ شَقَّ عصا الطاعة: بغاوت کرنا۔ شق عصا القوم: لوگوں میں اختلاف کے بیج بونا۔ ما شق غُبارَهم: وہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترا۔ لا يُشَقُّ غبارُهُ: اس پر کوئی سبقت نہیں لے جاسکتا، وہ بے نظیر ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں۔ انشقت عصاهم: وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ انشقت مرارتُهُ: وہ غصہ سے پھٹ پڑا۔ شَقُّ الذرَّة: جوہری انشقاق (atomic fission)۔ شِقُّ المُعارَضة: حزب اختلاف (opposition party)۔ لا۔ — إلا بِشِقِّ الانفس (بِشِقِّ النفس): صرف سخت کوشش سے، انتہائی مشکل سے، بمشکل۔ شِقَّة: اپارٹمنٹ، فلیٹ، کمپارٹمنٹ (ٹرین کا) جمع شِقَق۔ شُقَّة جمع شُقَق: مشکل سفر، سفر کی منزل، فاصلہ۔ بُعدُ الشُّقَّه او بُعْد الشِّقّة: بہت وسیع فاصلہ، طویل مسافت۔ بعيدُ الشُّقّة و بعيد الشِّقّة: دور دراز، دور، بعید، دور کا۔ القطر الشقيق: برادر ملک۔ الدولُ الشقيقة: the sister states (برادر ممالک)۔ اشغالٌ شاقَّةٌ: قید بامشقت۔ انشقاق: علیحدگی، اختلاف، پھوٹ، کھنڈت، افتراق، نااتفاقی، ان بن، نزاع، ناموافقت۔ اَشَقّ: زیادہ تکلیف دہ، زیادہ کٹھن، زیادہ مشکل، زیادہ سخت۔ شَقْشَق: (پرندہ کا) چہچہانا، چوں چوں، چیں چیں کرنا۔ — ب: بڑبڑانا۔ شَقْشَق: صبح کا دھیرے دھیرے نکلنا۔ شقشق بالحديث

عن: کے بارے میں گپ شپ اُڑانا، بک بک کرنا، چڑ چڑ باتیں کرنا۔ شَقْشَقَةُ اللسان: بچوں کی سی باتیں (کرنا)۔ شَقْشَقَةُ النهار: سویرا، تڑکا، فجر، صبح کی پہلی کرن۔

شقا: شَقَا - شَقْاً و شُقُوءً ا النابُ: کچلی اُگنا۔ شَعْرَ الرأس: سر کے بالوں میں کنگھا کر کے مانگ نکالنا۔ - رَأْسَهُ: کا سر پھاڑنا۔ - فلاناً: کسی کی مانگ پر مارنا۔ المَشْقَأ: مانگ۔ المِشْقَأ و المِشْقَاء و المِشْقَاءَة: کنگھا۔

شقح: ا۔ شَقُحَ - شَقَاحَةً: بدشکل ہونا، بدنما ہونا، صفت: شَقِح۔ شَقَح۔ شُقحاً دُ اللّٰهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو قبیح بنانا۔ شَافَحَ مُشَاقَحَةً ہٗ: آپس میں گالی گلوچ کرنا۔ أشْقَحَ ہٗ: کو دور کرنا۔ الشُقْحُ و الشَقْح کہتے ہیں: شَقْحاً و شُقْحاً له: دوری ہو اس کے لئے۔

۲۔ شَقَحَ - شَقْحاً الشيءَ: کو توڑنا۔ - الجوزةَ: اخروٹ کی گری نکالنا۔

۳۔ شَقَحَ البرُّ: کھجور کا رنگ پکڑنا۔ أشْقَحَ البسرُ: کھجور کا رنگ پکڑنا۔ - النخلُ: درخت خرما پر کھجور کا گدر ہونا، بہار آنا۔ الأشْقَح م شَقْحاء جمع شُقْح: سرخی مائل، سنہرے بالوں والا۔ الشُقْحِي: سرخ رنگ کا۔

⊙ أشْقَحَ ہٗ: کو دور بھیجنا، کسی دور جگہ منتقل کرنا۔

شقذ: ا۔ شَقِذَ - شَقَذاً: نظر بد تیزی سے لگانا، نیند نہ آنا، صفت: شَقِذٌ و شَقَذٌ و شَقِيذٌ و شَقَذان۔ الشَقَذ (مص) کہتے ہیں: ماله شَقَذٌ ولا نَقَذٌ: یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ هذا ليس به شَقَذٌ ولا نَقَذٌ: اس میں کوئی نقص نہیں۔

۲۔ شَقَذَ - شَقْذاً و شَقِذَ - شَقَذاً: دور چلا جانا۔ شَاقَذَہٗ: سے دشمنی کرنا، کو دور کرنا۔ أشْقَذَہٗ: کو دھتکارنا، نکال دینا۔

۳۔ الشَقَذ و الشُقَذ و الشِقَذ جمع شُقْذان و شُقَاذَی (ح): گرگٹ کا بچہ۔ الشِقْذان (ح): بھیڑیا۔ (ح): حشرات الارض، کیڑے مکوڑے۔ (ح): بھٹ تیتر وغیرہ کے چوزے۔ الشَقْذان جمع شِقْذان و الشِقَذ و الشَقَذ (ح): گرگٹ۔ (ح): بھیڑیا۔

شقر: ا۔ شَقِرَ - و شَقُرَ - شَقَراً و شُقْرَةً: صاف رنگ ہونا، خوبصورت چمڑی والا ہونا، سنہرے بالوں والا ہونا، خوبصورت بالوں والا ہونا، کا سرخ و زرد رنگ ہونا، صفت: أشْقَر مؤنث شَقْراء جمع شُقْر۔

اِشْقَرَّ: گہرا سرخ و زرد رنگ ہونا۔ یہ مجرد شَقِرَ و شَقُرَ سے زیادہ بلیغ ہے۔ الشُقْرَة: سرخ و زرد رنگ۔ الشُقَّار و الشُقَّارَی (ن): سرخ رنگ کی نباتات یا گل لالہ۔

۲۔ الشَقْر (الشُقُور کا واحد: اہم کام، ضروری کام): کہتے ہیں: افضيتُ اليه بشُقُورِي: یعنی میں نے اسے اپنے معاملہ سے آگاہ کیا اور اسے ان امور سے مطلع کیا جو دوسروں سے چھپاتا تھا۔ بَثَّہٗ شُقُورَہٗ: اس نے اس سے اپنے حالات کی شکایت کی۔ الشَقِر (ح): مرغا، جھوٹ۔ کہتے ہیں: جاء بالشُقَر و البُقَر: وہ جھوٹ اور مصیبت لایا۔

۳۔ الشَقِرَّاق و الشِقِرَّاق (ح): فاختہ سے بڑا ایک پرندہ جو الشُقُرَّق اور الشَرَقْرَق کے نام سے معروف ہے۔

۴۔ الشَقِران او عفنُ الحبوب (ز): پودوں کی ایک بیماری جو خصوصاً دانوں کو لگتی ہے۔

⊙ شَقِرَ - شَقَراً و شَقُرَ - شُقْرَةً: خوبصورت جسم یا چہرے والا ہونا، روشن چمڑی والا ہونا، سنہرے بالوں والا ہونا، خوبصورت بالوں والا ہونا۔ شَقَر: خوبصورت رنگ والا ہونا، سنہرے بالوں والا ہونا۔ شُقْرَة: خوبصورت رنگ (جسم و چہرے کا)، سنہرے بالوں کے رنگ کا ہونا، سرخی۔ أشْقَر م شَقْراء جمع شُقْر: جسم اور چہرے کے خوبصورت رنگ والا، روشن چمڑی والا، سنہرے اور خوبصورت بالوں والا، سرخی مائل رنگ کا۔

شقص: ا۔ شَقَّصَ الذبيحةَ: ذبیحہ کو کاٹ کر حصہ داروں کے لئے برابر حصے کرنا۔ الشِقْص: نصیب، حصہ، چیز یا زمین کا ٹکڑا یا قطعہ۔ الشَقِيص: شریک، شرکت، حصہ، بہت میں سے تھوڑا۔ المُشَقِّص: قصائی۔

۲۔ الشَقِيص: عمدہ گھوڑا۔ المِشْقَص جمع مَشَاقِص: چوڑا پھل یا چوڑے پھل کا تیر۔

⊙ شَقَرَق: خوش ہونا، خوش باش ہونا، شگفتہ ہونا، اپنا جی بہلانا۔

شقع: شَقَعَ - شَقْعاً في الاناء: برتن میں منہ ڈال کر پینا۔ - الحطبَ: لکڑی کا ڈھیر لگانا (عام زبان میں)۔ شَقَّعَ له: کو گالی دینا، کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا (عام زبان میں)۔

شقف: الشَقف واحد شَقَفَة: ٹھیکری ٹھیکری کے ٹکڑے۔ الشاقُوف (ب): ہتھوڑا، فصیح لفظ الملطاس یا مِلْطَس ہے۔ (آرامی زبان کا لفظ)۔ الشَقِيف: پہاڑ کی ڈھلوان اور بڑی چٹان، چھوٹا پتھر (سریانی زبان کی عام بول چال میں)۔ تشقيف الحطب: لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا (سریانی زبان کی عام بول چال میں)۔

⊙ شَقَفَ: اسم جمع واحد شَقَفَة: ہانڈی (برتن) کے ٹکڑے۔

شقل: شَقَلَ - شَقْلاً الدراهمَ: درہموں کا وزن کرنا۔ - ہٗ: کو اونچا کرنا (سریانی زبان کی عام بول چال میں)۔ الشَاقُول: شاقول کی ڈوری plumb line۔ شَاقُول: (plummet) (شاقول ڈوری سے بندھے ہوئے وزن کو کہتے ہیں، جو معمار لوگ کسی دیوار کے سیدھا ہونے کی جانچ کے لئے استعمال کرتے ہیں)۔

⊙ شَقْلَبَ: اشیاء کو اوندھا کرنا، الٹا کرنا، درہم برہم کرنا۔ تَشَقْلَبَ: درہم برہم ہونا، ڈگمگا کر گرنا، قلابازی کھانا۔ شَقْلَبَة: قلابازی۔

شقن: شَقَنَ - شَقْناً العطيةَ: عطیہ کم دینا۔ شَقُنَ - شُقُونَةً العطاءُ: عطیہ کم ہونا۔ صفت: شَقْنٌ و شَقِينٌ و شَقِنٌ۔ أشْقَنَ العطيةَ: عطیہ کم دینا۔ - الرجلُ: کم مال والا ہونا۔ المِشْقَن: جوتے اور بوئے ہوئے کھیت کی مٹی کو برابر کرنے کا آلہ۔

شقا: ا۔ شَقَا - شَقْواً اللّٰهُ فلاناً: اللہ کا کسی کو بدبخت بنانا۔ شَقِيَ يَشْقَى شَقاً و شَقَاءً و شَقَاوَةً و شِقَاوَةً و شُقْوَةً و شِقْوَةً: بدبخت ہونا۔ صفت: شَقِيّ جمع أشْقِياء۔ شَاقَى فلاناً: سے بدبختی میں بڑھنا، (سے زیادہ بدبخت ہونا)، مقابلہ کرنا۔ آپ کہتے ہیں: شاقاني فشقوتُہٗ: اس نے مجھ سے بدبختی میں مقابلہ کیا تو میں اس پر غالب آیا یعنی میں اس سے زیادہ بدبخت نکلا۔ أشْقَى اللّٰهُ فلاناً: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بدبخت بنانا۔ الشقا (مص) والشقاء (مص): سختی، تنگی، بدبختی، غربت، افلاس، بے نوائی۔

۲۔ شَاقَى ہٗ في الحرب و نحوها: کو لڑائی وغیرہ میں مشغول کرنا۔ - ہٗ على كذا: سے صبر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ - ہٗ (عند العامة): کو ہاتھ سے پکڑ کر ہوا میں بار بار اچھالنا (عام بول چال میں)۔

۳۔ أشْقَى شَعَرَہٗ: بالوں میں کنگھی کرنا، کنگھی سے بال بنانا۔ المِشْقَى: کنگھی (مشقا بھی کہا جاتا ہے)۔

۴۔ الشَاقِي من الجبال جمع شَوَاقٍ و شُقْيان: پہاڑ کا لمبا نکلا ہوا گوشہ۔

⊙ شقا - شَقْوَاۃً: کو ناخوش کرنا، غمگین کرنا، مصیبت زدہ کرنا، کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا۔ شَقِيَ - شَقَاءً و شَقَاوَةً و شُقْوَةً: ناخوش ہونا، غمگین ہونا، بدبخت ہونا، مصیبت زدہ ہونا۔ - ب: کو مشکل پانا۔

أشقى ہ: کو ناخوش کرنا، غمگین کرنا، مصیبت زدہ کرنا، کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا۔ شَقَاء و شَقَا: بدقسمتی، بدنصیبی، بدبختی، عسرت، مفلسی، غربت، نکبت، سخت بری حالت، سخت تکلیف، مصیبت، تکلیف، تنگی، مشکل، چاکری۔ شَقِي جمع اشقياء: ناخوش، غمگین، بدقسمت، سخت غمزدہ، مصیبت زدہ، مفلس، ملعون، مکروہ، بیچارہ، بدنصیب، بدمعاش، مجرم، بدذات، دھوکے باز، ٹھگ، بدطینت، کینہ جو، شریر، شرارتی، شرانگیز۔ شَقْوَة و شَقَاوَة: بدنصیبی، بدبختی، مصیبت، غم، غمزدگی، سخت غربت، نکبت۔ شَقَاوَة: شرارت، شوخی، چھیڑ چھاڑ کی نیت، بدطینتی، کینہ جوئی، شرارتی پن۔

شك: ۱۔ شَكَّ ـ شَكًّا في الامر: کسی بات پر شک و شبہ کرنا۔ صفت فاعلی شَاكٌّ صفت مفعولی مَشْكُوكٌ فيه۔ ـ عليه الامرُ: پر معاملہ مشتبہ ہونا، معاملہ بھاری یا ناقابل برداشت ہونا، گراں گزرنا۔ شَكَّكَ ہُ: کو شک میں ڈالنا۔ تَشَكَّكَ في الامر: پر شک وشبہ کرنا۔ الشَكّ (مص) جمع شُكُوك: شک شبہ۔ الشَكَّة: اسم مرۃ۔ الشاكَّة جمع شواكّ: شاک کا مؤنث۔

۲۔ شَكَّ ـ شَكًّا ہُ بالرمح: کو نیزہ مار کر ہڈی تک بٹھا دینا۔ ـ ت الشَوكَةُ رِجلَهُ: پاؤں میں کانٹا چبھنا۔ ـــ الخَيَّاطُ الثوبَ: درزی کا کپڑے میں دور دور ٹانکے لگانا۔ ـــ الشيءَ إلى الشيء: ایک چیز کو دوسری سے ملانا۔ ـــ في السلاح: پورے ہتھیار پہننا، کامل مسلح ہونا۔ صفت شَاكُ السِلاح و شاكٌّ في السلاح جمع شُكَّاك۔ ـ القومُ بيوتَهم: لوگوں کا اپنے گھروں کو ایک ڈھنگ یا قطار میں بنانا۔ اسی سے عام لوگوں کا قول ہے شَكَّ اللؤلؤَ او الخرزَ و غيرهما: اس نے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ الشَكَّة: پہلو، کندھے وغیرہ کا چبھتا ہوا درد۔ (عام بول چال میں)۔ الشِكَّة جمع شِكَك: اسم نوع ہتھیار پہننے کا ایک انداز۔ (کہا جاتا ہے فلانٌ مُختلِف الشِكَّة: فلاں مختلف اخلاق کا حامل ہے)، لکڑی کی پچر جو کلہاڑی وغیرہ کو تنگ کرنے کیلئے لگائی جائے۔ بیوتٌ شِكَاكٌ: ایک ہی قطار میں بنے ہوئے مکانات۔ الشكيكة جمع شكائك و شُكُك: طریقہ گروہ۔ المِشَكُّ جمع مَشَاكّ: سوراخ کرنے کا اوزار، زرہ۔ مِشَكَّاكُ العصافير او التبغ: عام بول چال میں: وہ جگہ جہاں رسی یا لکڑی پر چڑیاں یا تمباکو کے پتے اکٹھے رکھے جاتے ہیں۔

۳۔ شَكَّ ـ شَكًّا اليه البلادَ: تک ملک طے کر کے پہنچنا۔ ـــ شَكًّا فلانا و اليه: کی طرف مائل ہونا۔ الشُكَّة: مسافت۔ کہتے ہیں بينهما شُكَّة بعيدة: ان کے درمیان بہت لمبی مسافت ہے۔

۴۔ الشَكّ جمع شُكُوك: ہڈی میں چھوٹی درز، چوہے مار دوائی۔ الشِكّ (ت): چیک (cheque)۔ الشاكَّة جمع شواكّ (طب): حلق کا ورم۔ الشكاكة: زمین کا کونہ۔ الشكيكة جمع شكائك و شُكُك: پھلوں کی ٹوکری، عادت: کہتے ہیں دَعْهُ على شكيكته: اس کو اس کی عادت پر چھوڑ دو۔

۞ شَكَّ ـ شَكًّا ہ ب: کو سے چیرنا، چھیدنا۔ ـــ ب: پر کچھ رکھنا۔ ـــ ہ: کو چبھونا، کھونپنا، بھونکنا۔ ـــ في/ب: پر شک کرنا، پر اعتبار نہ کرنا، کو شک وشبہ کی نگاہ سے دیکھنا، پر شبہ کرنا، کو مشکوک سمجھنا، مشتبہ سمجھنا، پر اعتراض کرنا، کے متعلق شک کا اظہار کرنا، کے متعلق شکوک ذہن میں رکھنا، کے متعلق شک ہونا۔ شَكَّكَ ہُ في: کو کے متعلق شک میں ڈالنا، کو کے متعلق شک سے بھرنا۔ تَشَكَّكَ في/ب: پر شک کرنا، کے متعلق شکوک وشبہات رکھنا۔ تَشَكَّكَ: شکی ہونا، متشکک ہونا، شک وشبہ کی نظر سے دیکھنا۔ بلاشك، لاشكَّ و لاشك، مـن دون شك: بے شک، بلاشبہ، یقیناً، وثوق سے۔ لاسبيل الى الشك فيه: غالباً، یقینی، غیر مشتبہ، مسلمہ، شک وشبہ سے بالا۔ لايتطرق اليه الشك: غالباً، یقیناً۔ مَشْكُوكٌ فيه: مشکوک، مشتبہ، غیر یقینی۔ مَشكوكٌ في امره: مشتبہ (شخص)۔ شَكَّكَ: ادھار پر بیچنا، ادھار پر خریدنا، ادھار لینا۔

شكر: ۱۔ شَكَرَ ـ شُكراً و شُكوراً و شُكراناً الرجلَ و له: (ل سے زیادہ فصیح ہے)، کی کسی احسان و بھلائی پر تعریف کرنا، کا شکریہ ادا کرنا، شکر کرنا۔ کہتے ہیں شَكَرَ اللهُ سعيَكَ: اللہ تم کو تمہاری کوشش کا بدلہ دے۔ شكرتُ لفلان نعمته: میں نے فلاں کی مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ شَكَرَ اللهَ و لِلّهِ و باللهِ و نعمةَ اللهِ و بنعمة الله: اس نے اللہ کا شکر کیا، اللہ کی مہربانی کا شکر کیا۔ صفت: شاكر جمع شاكرون و شُكَّر۔ شاكَرَهُ: کو اپنی شکرگزاری دکھانا۔ تَشَكَّرَ له: کا شکریہ ادا کرنا۔ الشَكُور جمع شُكُر: بہت شکرگزار (مذکر و مؤنث)۔ الشكور (في اسمائه تعالى): اللہ تعالیٰ جو تھوڑے عمل پر زیادہ بدلہ دیتا ہے۔

۲۔ شَكِرَ ـ شَكَراً ت الناقةُ: اونٹنی کے تھنوں کا دودھ سے بھر جانا۔ صفت: شَكِرة جمع شَكِرات و شَكَارَى و شَكْرَى و مِشكار۔ ـــ الرجلُ: بخل کے بعد سخاوت کرنا۔ عَينٌ شَكْرَى: آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھ۔ أشكَرَ الضرعُ: تھن کا دودھ سے بھرنا۔ صفت شَكْرَان م شَكْرَى جمع شُكَارَى و شَكَارَى۔ إشتَكَرَت السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔ ـــ الضرعُ: تھن کا دودھ سے بھرنا۔ الشَكْرَة: اسم مرۃ۔ ـــ و الشَكْرِيَّة: تھنوں کا دودھ سے بھرا ہونا۔ الشَكُور: وہ چہرہ جو بیماری کے نتیجہ میں جسم کے لاغر ہونے پر لاغر نہ ہو۔ المَشكَرَة: کہتے ہیں نباتٌ مَشْكَرَةٌ: زیادہ دودھ پیدا کرنے والی گھاس۔

۳۔ شَكِرَ ـ شَكَراً ت الشجرةُ: درخت کی جڑ میں شاخ نکلنا۔ أشكَرَ الشجرُ: درختوں کی جڑوں میں سے شاخیں نکلنا۔ إشتَكَرَ الشجرُ: درختوں کی جڑوں سے شاخیں اُگنا۔ ـ الجنينُ: پیٹ کے بچے کا روئیں دار ہونا۔ الشَكِير ج شُكُر: بڑے درختوں کی جڑوں میں اگنے والی شاخیں، بڑے پودوں، پروں اور بالوں میں چھوٹے پودے، پر اور بال، درخت کی چھال، گدی اور چہرے کے پاس اگنے والے بال۔ شكير الابل: چھوٹے اونٹ۔

۴۔ شَاكَرَهُ الحديثَ: سے گفتگو شروع کرنا۔

۵۔ إشتَكَرَت الرياحُ: ہواؤں کا تیز چلنا۔ إشتَكَرَ الرجلُ في عَدْوِهِ: دوڑنے میں جدوجہد کرنا۔ ـــ البردُ او الحرُّ: سردی یا گرمی کا تیز ہونا۔

۶۔ الشَاكِرِيّ جمع شَاكِرِيَّة: مزدور، نوکر (فارسی)۔ الشَاكِرِيَّة: نوکر کی مزدوری، اجرت، ٹیڑھے سر کی چھری (عام بول چال)۔ (ط): دودھ کے ساتھ پکائے ہوئے گوشت کا کھانا (عام بول چال)۔ الشَكَّارة: مالک کی زمین میں چھوٹا قطعہ جسے مالی اپنے لئے کاشت کرتا ہے (عام بول چال)۔ ریشم کے کیڑے جنہیں نانبائی اپنی دوکان یا لڑکے اپنے گھروں میں پالتے ہیں اور ان کو کھلانے کے لئے شہتوت کے پتے جمع کرتے ہیں (عام بول چال)۔ الشَوكَران و الشَيكَران و الشَيْكُران (ن): ایک زہریلا پودا۔

۞ شَكَرَ ـ شُكراً و شُكراناً ہ/ل ہ/ل/علي: کا کے لئے شکریہ ادا کرنا، کا کے لئے شکرگزار، ممنون، احسان مند، متشکر ہونا۔ ـــ ہ/ل: کی تعریف کرنا، حمد و ثنا کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا۔ مَشكورٌ عليه: شکریہ کے لائق، قابل ستائش، قابل تعریف، ستودہ۔ تَشَكَّرَ ل ہ: کا کے لئے شکریہ ادا کرنا، کا کے لئے

شکر گزار، ممنون، احسان مند، تشکر ہونا۔ شُکراً لک: میں آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ۔ شَکرہٗ شُکراً جزیلاً: کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا۔ شُکری: شکریہ کا۔ شُکران: احسان مندی، شکر گزاری، ممنونیت، تشکر، شکریہ، تعریف، ستائش۔ شکور: بہت شکر گزار، ممنون، احسان مند۔ شاکر: شکر گزار، ممنون، احسان مند۔ مُشکور: شکریہ کا مستحق، قابل ستائش، قابل تعریف، ستودہ۔ شِکارۃ جمع شکائر: بڑا تھیلا، ٹاٹ یا بورے کا تھیلا۔

شکز: شَکَزَ ـ شَکزاً ہٗ: کو انگلی چبھونا، زبان سے تکلیف دینا۔ ــــ ہ بالرُمح: کو نیزہ مارنا۔ الشَکز و الشَکِز: بدخلق۔ الشَکّاز: فسادی، بدخو۔

شکس: شَکُسَ ـ شَکَاسَۃً و شَکِسَ ـ شَکَساً: بخیل ہونا، سخت مزاج ہونا۔ صفت: شَکِس و شَکس جمع شُکس۔ شاکَسَ مُشَاکَسَۃً ہٗ: کی مخالفت کرنا، سختی سے پیش آنا۔ تشاکَسَ القومُ: لوگوں کا آپس میں مخالفت کرنا۔ کہتے ہیں: اللیلُ و النہارُ یتشاکسان: یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ الشَکِیس: نحوست۔ المِشکَس: بخیل، سخت مزاج۔

شکُس ـ شَکَاسَۃً و شَکِسَ ـ شَکَساً: بغض پرور اور کینہ جو ہونا، جھگڑالو ہونا، چڑچڑا ہونا، تنگ مزاج ہونا، بدمزاج ہونا، تیکھا ہونا، اکھڑ ہونا، روٹھا ہوا ہونا، جلا بھنا ہونا، تندخو ہونا، معاندانہ ہونا۔ شاکَسَ ہٗ: سے جھگڑنا، سے جھگڑا کرنا۔ تشاکَس: ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، جھگڑالو ہونا، چڑچڑا ہونا، تنگ مزاج ہونا۔ شَکِس جمع شُکس: بغض پرور، کینہ جو، جھگڑالو، چڑچڑا، تنگ مزاج، بدمزاج، تیکھا، اکھڑ، روٹھا ہوا، جلا بھنا، تندخو، معاندانہ۔ شَکَاسَۃ: بغض، کینہ، جھگڑالو پن، چڑچڑا پن، تنگ مزاجی، بدمزاجی، تیکھا پن، اکھڑ پن، تندخوئی، معاندت۔ مُشاکَسَہ جمع مشاکسات: جھگڑا، اختلاف، نزاع، توتو میں میں، سازش، تیکھا پن، چڑچڑا پن، بدمزاجی، ہرفتی کی جھاڑ جھپاڑ۔ تشاکُس: لغویت، نامعقولیت، لغو، مہمل یا بے تکی بات، بے تکا پن۔

شاکوش و شکوس جمع شواکیش: ہتھوڑا۔ ابو شاکوش: شارک (مچھلی)۔

شکص: الشَکِص و الشَکِیص: بدخلق۔ الشکیصۃ من الابل: وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں نہ تو دودھ ہو اور نہ ہی وہ حاملہ ہو۔

شکع: ۱۔ شَکِعَ ـ شَکَعاً المریضُ: مریض کا بہت آہ وزاری کرنا۔ صفت: شاکِع و شَکِع و شَکُوع۔ ــــ الرجلُ: غضبناک ہونا، دردمند ہونا۔ اَشکَعَ ہٗ: کو غضبناک کرنا، ملول کرنا، ناراض کرنا۔

۲۔ شَکِعَ ـ شَکَعاً الزرعُ: کھیتی کا زیادہ دانوں والی ہونا۔

شکل: ۱۔ شَکَلَ ـ شَکلاً الامرُ: معاملہ کا مشتبہ ہونا، عام لوگ کہتے ہیں شَکَل فلانٌ المسألۃَ: فلاں نے مسئلہ کو بلا تصفیہ چھوڑ دیا، ملتوی کر دیا، التواء میں ڈال دیا۔ ــــ الکتابَ: عبارت پر اعراب لگانا۔ ــــ العنبُ: انگور کا پکنے لگنا۔ شَکِلَ ـ شَکَلاً: بہت مبہم ہونا، مشکل ہونا۔ ــــ الشیءُ: سرخی مائل سفید ہونا۔ شَکَّلَ الامرُ: معاملہ کا مشتبہ ہونا۔ ــــ الکتابَ: عبارت پر اعراب لگانا۔ ــــ العنبُ: انگور کا پکنے لگنا۔ اَشکَلَ الامرُ: معاملہ کا مشتبہ ہونا۔ کہتے ہیں: اشکلت علی الاخبارُ: خبریں میرے لئے مشتبہ ہوگئیں۔ ــــ الشیُٔ: بہت مشکل ہونا۔ ــــ الکتابَ: کتاب پر اعراب لگانا۔ ــــ العنبُ: انگور کا پکنے لگنا۔ ــــ النخلُ: کھجور کا پک کر تیار ہونا۔ تشکَّلَ العنبُ: انگور کا پکنے لگنا۔ اِشتَکَلَ و اِستَشکَلَ الامرُ: معاملہ مشتبہ ہونا۔ الشَکل جمع اَشکال و شُکول: دشوار امر۔ کہتے ہیں: اُمورٌ اَشکال: یعنی مشتبہ امور۔ شکلُ الکتابِ: اعراب اور حرکات (کتاب کی)۔ الشَکلۃ: واحد حرکت۔ الشُکلۃ: سرخی مائل سفیدی۔ الاَشکَل جمع شُکل: سرخی مائل سفید، جس کی آنکھ کی سفیدی میں سرخی ہو۔ الشَکلاءُ: لاَشکل کا مونث۔ الاَشکلۃ: التباس، مشابہت۔ الشَکِیل: لگام کے لوہے پر لگا ہوا خون ملا جھاگ۔ المُشکِل و المُشکِلۃ جمع مَشاکِل و مُشکِلات: دشوار یا مشتبہ امر۔

۲۔ شَکَلَ ـ شَکلاً المریضُ: بیمار کا روبصحت ہونا۔ شَکَّلَ الشیءَ: کسی چیز کی تصویر بنانا۔ شاکَلَ مُشاکلۃً ہٗ: کے مشابہ ہونا، کے موافق ہونا۔ اَشکَلَ المریضُ: بیمار کا روبصحت ہونا۔ تشکَّلَ: صورت اختیار کرنا۔ تشاکَلا: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، موافق ہونا۔ الشَکل جمع اَشکال و شُکول: مشابہت، کسی چیز کی محسوس یا وہمی شکل وصورت، مثل، نظیر، قصد وارادہ۔ (کہتے ہیں: ــــ اللہ عن شکل فلان: میں نے فلاں کے ارادہ کے متعلق پوچھا)، جو آپ کے موافق ہو اور آپ کے لئے موزوں ہو۔ (آپ کہتے ہیں: لیس ھذا من شکلی: یعنی یہ بات نہ تو مجھ سے موافقت رکھتی ہے اور نہ میرے لئے موزوں ہے) منظر کا حسن۔ کہتے ہیں فلانٌ شَکلُہٗ جمیل: وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے یا خوش شکل ہے، خوبرو ہے۔ فلانٌ یحب الشکلَ: فلاں شخص خوبصورت منظر پسند کرتا ہے۔ الاَشکال: موتی یا چاندی کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے زیورات۔ الشِکل: مثل۔ الشُکلۃ و الشاکِل: مشابہت۔ کہتے ہیں فیہ شُکلۃٌ او شاکِلٌ من ابیہ: اس میں اپنے والد کی مشابہت ہے۔ الاَشکَل جمع شُکل: کہتے ہیں ھذا اَشکَلُ بہ: یہ اس کے مشابہ ہے۔ الاَشکَلۃ: مشابہت۔ کہتے ہیں فیہ اَشکَلۃٌ من ابیہ: اس میں اپنے باپ کی مشابہت ہے۔ الشاکِلۃ جمع شَواکِل: شاکل کا مونث: شکل صورت طریقہ، راستہ، نیت۔ التَشکیلۃ: مجموعہ۔ کہتے ہیں: تشکیلۃٌ من التبابات: ٹکٹوں کا مجموعہ۔ المُشکَّل: صورت وشکل والا۔ المُشاکَلۃ (مص): کہتے ہیں: فی فلانٍ مُشاکلۃ من ابیہ: فلاں میں اپنے باپ کی مشابہت ہے۔

۳۔ شَکَلَ ـ شَکلاً و شَکَّلَ الدابۃَ بالشِکال: جانور کو پائے بند ڈالنا۔ یعنی پائے بند سے جانور کے پاؤں باندھنا۔ الشِکال جمع شُکُل: وہ رسی جس سے جانور کے پاؤں باندھے جاتے ہیں۔ پائے بند، وہ دھاگا جو اونٹ کے پیش بند اور تنگ کے درمیان باندھتے ہیں۔ اگلی پچھلی ٹانگ باندھنے کا بندھن۔ ــــ فی الخیل: گھوڑے کی تین ٹانگوں کا سفید رنگ اور چوتھی کا اور رنگ ہونا۔ الشَکلاءُ: حاجت، ضرورت۔ الشاکِلۃ جمع شَواکِل: حاجت۔ الاَشکَلۃ: ضرورت۔ آپ کہتے ہیں: لنا عندہ اَشکَلۃٌ: ہماری اس کے پاس ایک (اٹکی ہوئی) ضرورت ہے۔ المَشکول: پائے بند سے بندھا ہوا۔ ــــ من الخیل: وہ گھوڑا جس کی تین ٹانگیں سفید رنگ کی ہوں اور چوتھی مخالف رنگ کی۔

۴۔ شَکَلَ ـ شَکلاً و شَکَّلت المرأۃُ شعرَھا: عورت کا دائیں بائیں جانب زلفیں گوندھنا۔ شَکِلَ ـ شَکَلاً ت المرأۃُ: عورت کا ناز وانداز والی ہونا۔ تشکَّلَتِ المرأۃُ: عورت کا اپنے بالوں میں پھول لگانا، عورت کا پھولوں سے اپنے آپ کو سجانا (عام بول چال)۔ الشکل جمع اَشکال و شُکول: عورت کا ناز ونخرہ۔ الشِکل: عورت کا ناز ونخرہ۔ امرأۃ شَکِلۃ: ناز نخرے والی عورت۔ التَشکیلۃ: عورت کے بالوں میں لگے ہوئے پھول، گلدستہ (عام

بول چال)۔المرأة المُشَكَّلَة: عورت جس نے بالوں میں پھول لگا رکھے ہوں (عام بول چال)۔
۵۔الشَاكِلَة جمع شَوَاكِل: کولہا، کمر، کنارا، پہلو طرف۔ جیسے شاكلة الطريق: راستہ کی ایک طرف۔اصاب شاكِلَةَ الصواب و فلانٌ يرى برأيه الشواكِلَ: اس نے درستی کا پہلو پالیا۔وہ اپنی رائے سے درستی کے پہلو دیکھ لیتا ہے۔الشَواكِل: بڑے راستہ سے نکلنے والے راستے۔کہتے ہیں هذا طريق ذو شَوَاكِل: اس راستے سے بہت سے راستے پھٹتے ہیں۔الشَوكَلَة: کونا، جانب۔(ن) شَوكَل کا واحد۔ایک کانٹے دار درخت۔
○ شَكَل ۔ شكلاً ہ: جانور کی ٹانگیں ایک ساتھ رسی سے باندھنا (تاکہ وہ زیادہ دور نہ جاسکے)۔۔۔۔ ہ: عبارت پر اعراب لگانا۔۔۔۔: مشکوک ہونا، مشتبہ ہونا، مبہم ہونا، الجھا ہوا ہونا، مشکل ہونا۔شَكَّل: بمعنی شَكَلَ ؛۔ ہ: کو بنانا، تخلیق کرنا، ڈھالنا، تخلیق کرنا، منظم کرنا، ترقی دینا، میں تنوع پیدا کرنا، کو بدلنا، مختلف کرنا، متنوع کرنا، بوقلموں کرنا، میں رنگارنگی یا تنوع پیدا کرنا۔أَشْكَلَ علی: کیلئے مشکوک ہونا، مشتبہ ہونا، مبہم ہونا، غیر واضح ہونا، دھندلا ہونا، پیچیدہ ہونا، الجھا ہوا ہونا، مشکل ہونا۔تَشَكَّل: بننا، شکل اختیار کرنا، ڈھلنا، تخلیق پانا، منظم ہونا، ترقی پانا، متنوع ہونا، بو قلموں ہونا، مشتبہ ہونا، درجہ بند ہونا، کم ڈھلان والا ہونا، مختلف درجے بندیاں کرنا۔ لِ: کے لئے مادی صورت میں آنا، مرئی شکل میں ظاہر ہونا۔تَشَكَّل بشكله: کی شکل اختیار کرنا۔استشكل ہ: کو مشتبہ سمجھنا نیز بمعنی اشْكَلَ۔ شَكْل جمع أشكال و شُكُول: مشابہت مماثلت، مظہر خارجی، شکل، صورت، نقشہ، ساخت وضع قطع، بناوٹ، کاٹھی (انسان کی) ادراک کی صورت، مثال، نمونہ، قطع، کاٹ، طریقہ انداز اسلوب، قسم۔شَكْلاً: رسمی طور پر۔ هم و اشكالهم: وہ اور ان جیسے۔شكلي: رسمی۔شكليات: ضابطے کی کارروائیاں۔شِكْل: نازنخرہ، عشوہ گری، شَكِلَة: نازنخرہ والی عشوہ طراز عورت، نازنخرے والی عشوہ گر۔شُكُلي: لڑاکا، جھگڑالو، چڑچڑا۔اشِكَال جمع شكالات و شُكُل: بیڑی، سانکل، سنگلی۔
تَشكيل: بنانا، بناوٹ، ڈھلائی، تخلیق، تنظیم، ترقی، کوچ کی وردی۔تشکیلات: ترتیبات، تنظیمات۔
تشكيلة: یکساں مختلف میل، انتخاب، تنوع، بناوٹ، ترتیب۔مُشَاكَلَة: مشابہت، مماثلت۔إشْكال: ابہام، تاریکی، دھندلاپن۔تشاكُل: مشابہت، مماثلت۔شَاكِلة: راستہ، طریقہ، رویہ، انداز، جمع شواكل: پہلو، کوکھ، جانب، چڈا، جانگھ۔على شاكلةِ: کے انداز میں، کی قسم کا، جیسا، کے مانند۔على شاكلتهم: ان جیسا، ان کی طرح۔كان على شاكلته: اسی قسم کا، اسی طرز، انداز، اسلوب کا ہونا۔
مُشَكَّل: مختلف، طرح طرح کا، گوناگوں، کئی، متعدد، متفرق، بوقلموں، با اعراب۔مُشْكِل: الجھا ہوا، مبہم، مشتبہ، مشکوک، غیر واضح، دھندلا، گدلا، تیر و تار، مشکل، پیچیدہ، الجھا ہوا، مسئلہ، ناحل شدہ سوال۔
مُشْكِلة: مسئلہ، قضیہ، ناحل شدہ مسئلہ، قضیہ، مشکل۔
شکم: ۱۔ شَكَمَ ۔ شَكْمًا ہُ: کو دینا، بدلہ دینا۔۔۔ فلاناً: کو رشوت دینا۔ شَكْمًا و شَكِيمَاً ہُ: کو دانت سے کاٹنا۔ شَكِمَ ۔ شَكَماً: بھوکا ہونا۔
أَشْكَمَ ہُ: کو بدلہ دینا۔الشَكْم و الشُكْمَى: بدلہ، عطیہ، رشوت۔الشَكِيمَة جمع شَكَائِم و شُكُم و شَكِيم: تکبر، ظلم کی دادرسی۔۔۔۔ من اللجام: لگام کا وہ لوہا جو گھوڑے کے منہ میں رہتا ہے۔
ذُو شكيمة يا شديدُ الشكيمه: خوددار، غیرت مند، جو تابع نہ ہو۔
۲۔الشَكِم (ح): شیر۔الشَكِيمة جمع شَكَائِم و شُكُم و شَكِيم: عہد، طبیعت، مشابہت۔
○ شَكَمَ ۔ شَكْماً ہ: (جانور) کو لگام دینا۔۔۔ ہ: کو رشوت دینا، خاموش کرنا، کے منہ میں کپڑا ٹھونسنا، کی زبان بندی کرنا۔شَكِيمة جمع شَكَائِم و شُكُم و شَكِيم: چھوٹا سا ٹکڑا، دہانہ۔جمع شَكَائِم: (پہیے کا) بریک (brake)، آسانی سے قابو میں نہ آنا، نہ جھکنا، ضد، ہٹ دھرمی، توہین تذلیل، تحقیر۔شديد الشكيمة: ضدی، سرکش، ہٹ دھرم، ہٹیلا، ہٹ کا پکا، منہ زور۔قوة الشكيمة: زور، طاقت، ہمت، توانائی۔
قَوِيُّ الشكيمة: توانا، طاقت ور، باہمت، مستعد، سرگرم، چاق، چوبند، زوردار، جاندار، ہوشیار، چست، پھرتیلا۔
شکه: شَاكَهَ شِكَاهاً و مُشَاكَهَةً ہُ: کے مشابہ ہونا۔
أَشْكَهَ الامرُ: کام دشوار ہونا۔تَشَاكَهَا: ایک دوسرے سے مشابہ ہونا۔
شکا: ۱۔ شَكَا ۔ شَكْوىً و شَكْواً و شَكَاةً و شَكَاوَةً و شِكَايَةً و شَكِيَّةً اليه زيدا: سے زید کی شکایت کرنا۔شَاكٍ: شکایت کرنے والا۔مَشْكُوّ و مَشْكِيّ: جس کی شکایت کی جائے۔مَشْكُوٌّ اليه: جس سے شکایت کی جائے۔شَكْوَى: شکایت۔۔۔ الأَمْرَ او العِلَّة: بات یا بیماری کا ذکر کرنا۔ سے درد مند ہونا۔۔۔ امرَهُ إلى الله: اللہ سے اپنے مسئلہ کا اظہار کرنا۔شَكَّى تَشْكِيَةً الشاكِيَ: کی شکایت ماننا۔شَاكَى ہُ: کی شکایت کرنا، اپنی افتاد سے مطلع کرنا۔أَشْكَى إشكاءً فلاناً: کی شکایت قبول کرنا، کو شاکی پانا، کے سامنے اپنی شکایت بیان کرنا یا اپنی تکالیف شوق کا ذکر کرنا، کے ساتھ قابل شکایت برتاؤ کرنا، کی شکایت کو دور کرنا (ضد)۔۔۔۔ فلاناً من فلان: سے کسی کی خوشنودی کے لئے کوئی چیز لینا۔کہتے ہیں: هو يُشْكَى بكذا: یعنی اس پر فلاں الزام لگایا جارہا ہے۔تَشَكَّى اليه: سے شکایت کرنا۔
تَشَاكَى تَشَاكِيًا القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے کی شکایت کرنا۔ إِشْتَكَى اليه: سے شکایت کرنا۔
الشَكْوَى جمع شَكَاوَى: جس چیز کی شکایت کی جائے۔الشَكْوَة جمع شَكَوَات و شَكَاء: شکا کا اسم مرة۔الشَكِيّ م شَكِيَّة جمع شَكَايَا: جس کی شکایت کی جائے۔۔۔۔ و الشاكِي: شکایت کرنے والا۔
۲۔ شَكَا ۔ شَكْوَى و شَكْواً و شَكَاةً و شَكَاوَةً و شِكَايَةً و شَكِيَّةً مرضَهُ للطبيب: طبیب سے اپنے مرض کی حالت بیان کرنا۔ شَكْوًا و شَكْوَى و شَكَاةً المرضُ فلاناً: بیماری کا کسی کو دکھ دینا۔
تَشَكَّى: بیمار ہونا۔۔۔ من جرحٍ: زخم سے کو درد ہونا۔اِشْتَكَى: بیمار ہوجانا۔۔۔ من جرحه: کا اپنے زخم کی وجہ سے تکلیف میں ہونا۔الشَكْو والشَكْوَى والشَكَاء والشَكَاة والشَكْوَاء: بیماری۔الشَكْوَة جمع شَكَوَات و شَكَاء: شَكْو بمعنی بیماری کا واحد۔الشَكِيّ م شَكِيَّة جمع شَكَايَا: دردمند، دکھی۔۔۔۔ والشَاكِي: تھوڑی بیماری والا، معمولی مریض۔
۳۔الشَكْو (ح): چھوٹا اونٹ۔الشَكْوَة والشُكَيَّة: دودھ یا پانی کے لئے چمڑے کا برتن۔رجُلٌ شاكي السلاح: ہتھیار بند، رعب داب کا آدمی (شائک کا الٹ ہے)۔الشكاة: عیب۔المِشْكَاة: طاق، چراغ رکھنے کا طاق، چراغ۔
شکی: شَكِيَ ۔ شَكْيًا اليه: سے شکایت کرنا۔
الشَكِيَّة: بقیہ۔
○ شكا ۔ شَكْواً و شَكْوَى و شكاةً و شَكَايَةً و شَكِيَّةً ہ/ ہ/من: کی شکایت کرنا۔لِ/الی: سے۔۔ ہ/من: کے بارے میں شکایت کرنا۔۔۔: شکایت کرنا۔ہ/ہ/من: کی، کے بارے یا کے خلاف شکایت کرنا یا استغاثہ دائر کرنا۔لِ/الی: کے ہاں، پاس۔

ھ۔ بخار وغیرہ ہونا، میں مبتلا ہونا۔ تَشَکّی: بمعنی شکا۔ تَشَاکی ھ: کی، کے بارے میں ایک دوسرے سے شکایت کرنا۔ اِشتکی: بمعنی شکا۔ شَکْوَۃ: شکایت، شکوہ، استغاثہ، وجہ شکایت۔ جمع شَکَوات و شِکَاء: مشکیزہ (پانی یا دودھ کیلئے)۔ شَکْوَی جمع شَکَاوَی: شکایت، الزام دینا، متہم کرنا، تکلیف، مصیبت، وجہ، شکایت۔ شَکَاۃ: شکایت، الزام دینا، متہم کرنا، تکلیف، مصیبت، وجہ شکایت۔ شِکَایَۃ: شکایت، الزام دینا، متہم کرنا، اتہام، تکلیف، مصیبت، وجہ شکایت۔ شَکِیَّۃ: شکایت، اتہام، تکلیف، مصیبت، وجہ شکایت۔ شَکّاء: شکایتیں کرنے کا عادی، شکوہ شکایت کرنے والا۔ مِشکاۃ جمع مِشْکَاوات و مَشَاکٍ: طاق (چراغ رکھنے کے لئے) چراغ، لیمپ، آویزاں لیمپ۔ شاکٍ: شکایت کنندہ، مستغیث۔ مشکومنہ: جس کی شکایت کی گئی ہو، متہم، جس پر الزام لگایا گیا ہو، ملزم، مدعاعلیہ۔ مُشتَکٍ: شکایت کنندہ، مستغیث۔ مُشتکَی علیہ: جس کی شکایت کی گئی ہو، متہم، ملزم، مدعاعلیہ۔ شِکُوریا: کاسنی (chicory)۔ شُکُولاتَہ: چاکلیٹ (chocolate)۔ شَاکُوس و شَکُوس: ہتھوڑا۔ ابو شاکوس: شارک (مچھلی)۔

شل: ۱۔ شَلَّ ۔ شَلًّا و شَلَلًا و شُلَّ و اُشِلَّ ت یَدُہُ: کے ہاتھ کا سوکھنا، بیکار ہونا، شل ہونا۔ اَشَلّ: یعنی جس کا ہاتھ سوکھ گیا ہو۔ شَلَّاء: سوکھا ہوا ہاتھ تیر اندازی و نیزہ بازی کے استاد کے حق میں دعا کے طور پر کہا جاتا ہے: لاشَلَّتْ یداك یا لا شُلّت عشرُكَ: یعنی خدا کرے تمہارے ہاتھ یا ہاتھوں کی دس انگلیاں بیکار نہ ہوں۔ أَشَلّ: خشک ہاتھ والا ہونا۔ شَلَالِ: (مبنی بر کسر) شلل کا اسم۔ تیر انداز کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں: لاشَلالِ: خدا کرے تمہارا ہاتھ بیکار نہ ہو۔ الشَّلَل (طب): ہاتھ کی خرابی۔

۲۔ شَلَّ ۔ شَلَّاتِ العینُ دمعَھا: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اِنْشَلَّ المطرُ: بارش کا برسنا۔ ۔ السیلُ: سیلاب کا بڑھنا شروع ہونا۔ الشَّلَل و الشُّلُل و الشَّلُول: تیز رفتار۔ الشَّلِیل جمع اَشِلَّۃ: وادی کے درمیان پانی بہنے کا بڑا نالہ۔ الشَّلّالات واحد شَلّال: آبشار۔ رجُلٌ مِشَلٌّ: تیز چلنے والا۔

۳۔ شَلَّ ۔ شَلًّا الثوبَ: کپڑے کی ہلکی سلائی کرنا۔ ۔ الدرعَ و شلّھا علیہ: زرہ پہننا۔ الشِّلَّۃ عند الخیاطین دھاگے کا لچھا۔ الشِّلالۃ عند الخیاطین کپڑے کی ایک پرت کو دوسرے پرت سے جوڑنے کے لئے ان کے کناروں کو سینا۔ الشَّلِیل جمع اَشِلَّۃ: اونی کپڑے کا ٹکڑا جو جانور کے پٹھے پر کجاوہ کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، بڑی زرہ کے نیچے پہنی جانے والی چھوٹی زرہ، زرہ کے نیچے پہنا جانے والا کرتہ۔ المِشَلّ: گردن پر ڈالنے کا کپڑا۔

۴۔ شَلَّ ۔ شَلًّا و شَلَلًا الابلَ: اونٹوں کو ہانکنا، ہکالنا۔ کہتے ہیں: مرّ فلان یشُلُّھم بالسیف: فلاں شخص لوگوں کو تلوار کے زور پر ہانکتا گزرا۔ الصبحُ یشُلُّ الظلامَ: صبح تاریکی کو بھگا دیتی ہے۔ ۔ الشیءَ: چیز کو کاٹنا۔ اِنْشَلَّ الذئبُ فی الغنم: بھیڑیئے کا بکریوں میں تباہی مچانا۔ ۔ ت الابلُ: اونٹوں کا بھاگنا۔ الشَّلَّۃ: اسم مرۃ۔ الشِّلال: متفرق لوگ۔ کہتے ہیں: جاء القومُ شِلالًا: لوگ اونٹوں کو باہر نکالتے ہوئے آئے۔

۵۔ الشَّلَل: کپڑے کا داغ جو دھونے سے نہ جائے۔ الشُّلَل و الشُّلُل و الشَّلُول: خوش مزاج ساتھی۔ الشُّلَّۃ و الشُّلَّی: دور کا مقصد، سفر کی سمت۔ رجُلٌ مِشَلٌّ: اچھی صحبت والا آدمی۔

۶۔ شَلْشَلَ شَلْشَلَۃً و شِلْشَالًا الماءُ: پانی کا ٹپکنا۔ ۔ الماءَ و بالماء: پانی ادھر ادھر چھڑکنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: شَرْشَرَ ۔ الماءَ: پانی ٹپکانا۔ ۔ السیفُ الدمَ: تلوار کا خون گرانا۔ صفت مفعولی: شَلْشَلٌ و مُشَلْشِلٌ و مُشَلْشَلٌ: یعنی ٹپکایا ہوا پانی یا تلوار کا گرایا ہوا خون۔ تَشَلْشَلَ الماءُ: پانی کا پھیلنا اور بکھرنا۔ ۔ السیفُ بالدم: تلوار کا خون گرانا۔ کہتے ہیں: جاءَ و جرحُہُ یتشلشل دمًا: وہ ایسی حالت میں آیا کہ زخم سے خون ٹپک رہا تھا۔ الشَّلْشَل: ٹپکنے والی مشک۔ ماءٌ شَلْشَلٌ: مسلسل ٹپکنے والا پانی، ماءٌ ذو شَلْشَل: قطرہ قطرہ ٹپکنے والا پانی۔

۷۔ الشَّلْشَل و الشُّلْشُل من الرجال: تیز و سبک دست، خوش مزاج۔

○ شَلَّ ۔ شَلًّا و شَلَلًا: خشک ہونا، مرجھانا، لنگڑا ہو جانا، نشوونما رکی ہوئی ہونا، کو فالج ہونا، پر فالج گرنا، لولا لنگڑا ہونا۔ شَلَّ ھ: کو بے بس کرنا۔ شَلَّ حرکتَہُ: کو گھیرے میں لینا، کچل دینا۔ اَشَلَّ ھ: (ہاتھ) کو مرجھا دینا، کی نشوونما روک دینا، بے اثر کرنا، کا اثر توڑنا، کو روک دینا۔ اِنْشَلَّ: مفلوج ہونا، لنگڑا لولا ہونا۔ شَلَّۃ: منزل مقصود۔ شِلَّۃ جمع شِلَل: (سوت کا) لچھا یا گچھا، کنڈلی، پیچ، پچھا، ریل (spool)، جماعت، گروہ۔ شَلَل: فالج، مفلوج کرنا (مجازاً)۔ شلل الاطفال: بچوں کا فالج۔ الشلشل الاھتزازی: رعشہ۔ مشلول: فالج زدہ، مفلوج، ماؤف، لنگڑا لولا۔ اَشَلّ: مرجھایا ہوا، نشوونما رکا ہوا (ہاتھ)، مفلوج، فالج زدہ، ماؤف، لنگڑا لولا۔ شَلّال جمع شَلّالات: آبشار۔ شَلَبِی: بانکا چھیل چھبیلا، خوبصورت۔ شَلَّت: ٹھوکر لگانا، لات مارنا، ٹھکرانا۔ شَلْتَۃ جمع شَلْتَات و شِلَت: گدا (mattress)۔

شلح: شَلَّح تَشْلِیحًا ھُ: کو ننگا کرنا۔ اسی سے ہے: تشلیحُ قطاع الطرق للمسافرین: راہزنوں کا مسافرین سے پیسے اور زیورات وغیرہ چھین لینا۔ شلحُ الثیاب: کپڑے اتارنا (سریانی)۔ الشَّالُوح: لمبی لکڑی (عام بول چال)۔ الشَّلْحَاء و الشَّلْحَی جمع شُلُح: تیز دھار تلوار (تلوار کا ایک آلہ ہونے کے لحاظ سے مونث لائی گئی ہے)۔ المَشْلَح: لبادہ، چوغہ (عام بول چال)۔ المُشَلَّح: حمام کا وہ کمرہ جہاں کپڑے اتارے جاتے ہیں۔

○ شَلَح ۔ شَلْحًا ثیابَہُ: کپڑے اتارنا۔ ۔ راہب (پادری کا) مذہبی خدمات سے دستبردار ہونا۔ شَلَّح ھ: کو ننگا کرنا، کو لوٹنا۔ مَشْلَح جمع مَشَالح: اون یا اونٹ کے بالوں کا لمبا چوغہ، لبادہ جس پر سنہری سوزن کاری کی گئی ہو۔ تشلیح: لوٹنا، ڈاکہ۔ مُشَلَّح: عمومی حمام میں سنگار خانہ۔ شَلْشَل: ٹپکنا، رسنا۔

شلخ: شَلَخ ۔ شَلْخًا ھُ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا۔ ۔ الشِّلْخ (مص): اصل، جڑ، رگ، آدمی کی اولاد۔ کہتے ہیں: ھو شِلْخُ سُوْءٍ: وہ بدی کی اولاد ہے۔ الشَّلِیخ (ط): گوشت، دودھ اور پیاز سے تیار کردہ کھانا۔ بعض اسے الشاکریۃ کہتے ہیں۔

شلط: الشَّلْطاء: چھری۔ الشِّلْطَۃ جمع شِلَط: باریک اور لمبا تیر۔

شلغ: شَلَغ ۔ شَلْغًا الرأسَ: سر کچلنا۔

شلف: شَلَف ۔ شَلْفًا البنتَ: لڑکی کو اغوا کرنا۔ شَلِیفَۃ: مغویہ (سریانی کی عام بول چال میں)۔ الشِّلْفُ من الحدید: لوہے کی سلاخ (عام بول چال)۔ الشَّلفۃ عند العامۃ: تیزہ، برچھا، برچھی، بلم نیزہ کی انی، انی (سریانی)۔ الشالوف عند العامۃ: آبشار، آبشار گرنے کی جگہ۔ الشلّافۃ من النساء: بدکار عورت

○ شِلْفَۃ: (ریزر کا) بلیڈ (blade)۔

شلق: ۱۔ شَلَق ۔ شَلْقًا ھُ: کو لمبائی میں پھاڑنا یا چیرنا۔ ۔ ھُ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔ ۔ الحائطُ عند العامۃ: دیوار کا کچھ حصہ گر جانا یا پھٹ جانا۔ الشِّلْقاء: چھری۔ الشَّلْقَۃ و الشِّلْقَۃ:

دیوار وغیرہ کے کچھ حصہ کا گرنا یا پھٹ جانا (عام بول چال)۔ المِشْلِیق: ہنستے وقت منہ کھولنے والا۔

۲۔ إِشْتَلَقَ: غور کی آنکھ سے دیکھنا (عام بول چال)۔

۳۔ الشِلْق و الشَلِق (ح): الاشلاق کا واحد: زرم کانٹوں کی ایک مچھلی۔ الشَلْقَة و الشِلْقَة: گوہ کے انڈے۔ الشَلَقَة: گھوڑے سدھانے والے۔ الشَلَّاق: فقیروں کا تھیلا۔ الشَوْلَقِی: مٹھائی فروش، مٹھائی کا بہت دلدادہ۔

○ شلق. (سوکھی گھاس کا) گٹھا، گانٹھ۔

شلم: الشِلَّم: چنگاری۔ کہتے ہیں: فلانٌ یتطایر شِلَّمُهُ: یعنی غصہ سے اس کے منہ سے چنگاری نکلتی ہے۔ الشَلْمَة: اچنبھا، خلاف توقع بات۔ الشَیْلَم والشَوْلَم و الشَالَم (ن) گیہوں میں اگنے والا کڑوا دانہ۔ (ن) جو یا بغیر چھلکے کا جو۔

شلن: الشِلِن: شلنگ (انگریزی نقدی)

شلا: ۱۔ شَلا ـ شَلْوًا: چلنا۔ أَشْلَی إِشْلاءً الکلبَ علی الصید: کتے کو شکار پر اُکسانا، ابھارنا۔ ــــ الناقةَ: اونٹنی کو دودہنے یا چرنے کے لئے بلانا۔ الشَلا: ہر چیز کا جسم۔ الشِلو جمع أشلاء: ہر چیز کا جسم، گوشت کا ایک عضو۔ (ح): اونٹنی کا بچہ، ہر کھال کھینچا ہوا، جس میں سے کچھ کھا لیا گیا ہو اور کچھ چھوڑ دیا گیا۔ اشلاء اللجام: لگام کے پرانے تسمے۔ ــــ الانسان: انسان کے اعضاء (متفرق ہونے کے بعد) کہتے ہیں: بنو فلان أشلاءٌ فی بنی فلانٍ: فلاں کے بیٹے فلاں کے بیٹوں میں ان کی باقیات ہیں۔ الشَلِیّ: ہر چیز کے باقیات۔ الشَلِیَّة جمع شَلایا: مال کا بقیہ، گوشت کا ٹکڑا۔ المُشَلَّی: نحیف، دبلا۔

۲۔ شَلا ـ شُلُوًّا الشیءَ: چیز کو بلند کرنا، اونچا کرنا۔ شَلَّی الماءَ الحارَّ: گرم پانی کو بار بار ہاتھ سے اونچا لیجا کر گرانا تاکہ ٹھنڈا ہو جائے (عام بول چال میں)۔

۳۔ إِشْتَلَی فلانًا: کو چھڑانا۔ إِسْتَشْلَی هُ: کو چھڑانا۔

۴۔ إِسْتَشْلَی: غضبناک ہونا۔

شم: شَمَّ ـ شَمًّا و شَمِیمًا و شِمِّیمَی الوردَ: (گلاب کے پھول کو) سونگھنا۔ شُمَّ: آزمائش کیا جانا۔ شَمَّمَ الزهرَ: پھول سونگھنا۔ ــــ ہ الزهرَ: کو پھول سنگھانا۔ ــــ شَامَّ مُشَامَّةً و تَشَامًّا: ایک دوسرے کو سونگھنا۔ أَشَمَّ هُ الوردَ: کو گلاب کا پھول سنگھانا۔ کہتے ہیں: أَشِمَّنِی یدَکَ: مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ۔

تَشَمَّمَ هُ: کو آہستہ آہستہ سونگھنا۔ إِسْتَشَمَّ الشیءَ: کو سونگھنا۔ إِشْتَمَّ هُ: کو سونگھنا چاہنا، سونگھنا۔ الشَمّ (مص): سونگھائی۔ الشَمَم (ضد): نزدیکی، دوری۔ الشَامَّة: سونگھنے کی حس۔ الشَمَّام و الشَمُوم: بہت سونگھنے والا۔ الشَمَّامات: عمدہ خوشبوئیں۔ الشَمِیم: عمدہ خوشبو۔ المَشْمُوم (مفع): سونگھی ہوئی چیز مشک۔

۲۔ شَمَّ ـ شَمَمًا: تکبر کرنا۔ ــــ الجبلُ او الانفُ: پہاڑ یا ناک کی چوٹی کا بلند ہونا۔ صفت: اَشَمّ و شَمِیم: اَشَمَّ: سر اونچا کر کے گزرنا۔ کہتے ہیں: عرضتُ علیه کذا فاذا هو مُشِمٌّ لا یریده: میں نے اسے کوئی چیز پیش کی تو اس نے ناک اونچی کر لی گویا وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ الشَمَم: ناک کے بانسہ کا ستواں اور خوبصورت ہونا۔ شَمَّامَةُ القِندِیل: وہ جگہ جہاں باہر نکلی ہوئی بتی کو آگ دکھا کر لیمپ روشن کیا جاتا ہے۔ الشمیم: بلند، اونچا۔ الاَشَمّ م شَمَّاء جمع شُمّ: مغرور سردار، کریم، اونچی ناک والا، حساس ستوان ناک والا، نخوت پسند، نک چڑھا، متکبر، غیور؛ خاندانی، نہایت معزز۔

۳۔ أَشَمَّ القارئُ الحرفَ: قاری کا اشمام کر کے وقف کرنا۔ الإشمام عند القراء او النحاة: (قاریوں یا نحویوں کے نزدیک) ہونٹ کے ساتھ بغیر آواز نکالے حرکت کی طرف اشارہ کرنا۔

۴۔ أَشَمَّ عن الامر: معاملہ سے الگ ہونا۔

۵۔ الشَمَّام (ن): سردا۔

شمب: الشمبانیا: فرانس کی ایک عمدہ شراب۔

○ شَمَّ ـ شَمًّا و شَمِیمًا ہ: کو سونگھنا، سونگھ کر دیکھنا۔ ــــ ہ ناس لینا۔ ــــ من: سے نکلنا، جاری ہونا۔ شم النسیم او الهواء: تازہ ہوا میں سانس لینا، تازہ ہوا کھانا، چہل قدمی کرنا، سیر کرنا۔ ــــ شمما: تکبر کرنا، نخوت پسند ہونا، نک چڑھا ہونا۔ شَمَّمَ ہ: کو کچھ سونگھنے کے لئے دینا، کو کچھ سنگھانا۔ اَشَمَّ: بمعنی شَمَّمَ۔ تَشَمَّمَ ہ: کو سونگھنا، سونگھ کر دیکھنا۔ تَشَمَّمَ الأخبارَ: خبروں کی ٹوہ رکھنا۔ إِشْتَمَّ ہ: کچھ سونگھنا، کو سونگھ کر دیکھنا۔ ــــ ہ من: کو سے سمجھنا، سے کچھ خیال کرنا، سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ۔ شَمّ: سونگھنا، سونگھنے کی حس۔ شم النسیم: مصر میں مارچ کے اواخر، اپریل میں یا مئی کے اوائل میں منائی جانے والی عام تعطیل۔ شَمَّة: نسوار کی چٹکی، بو، کسی چیز کا ہلکا سا کش، مہک۔ شمم: غرور، تکبر، کبر، نخوت، غیرت۔ شَا[illegible]

تمباکو کی نسوار لینے والا۔ شَمَّام: اسم جمع واحد شَمَّامَة: سردا۔ اَشَمّ م شَمَّاء جمع شُمّ: حساس یا خوبصورت ناک والا، متکبر، نخوت پسند، نک چڑھا، غیور، خاندانی، ازحد محترم و معزز۔ شَامَّة: سونگھنے کی حس۔ مشموم: کستوری، مشک، نافۂ آہو۔

شمت: ۱۔ شَمِتَ ـ شَمَاتًا و شَمَاتَةً بفلان: کی مصیبت پر خوش ہونا، صفت فاعلی: شَامِت جمع شُمَّات: صفت مفعولی: مشموتٌ به شَمَّتَ العاطِسَ و شَمَّتَ علیه: چھینک لینے والے کو یَرْحَمُكَ اللّٰه کہہ کر دعا دینا یا کسی کے حق میں یہ دعا کرنا کہ وہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس پر خوش ہو۔ ــــ هُ: کو ناکام کرنا، محروم کرنا۔ أَشْمَتَ هُ اللّٰهُ بعدوه: اللہ کا کسی کو دشمن کی تکلیف سے خوش کرنا۔ تَشَمَّتَ القومُ: قوم کا بغیر غنیمت ناکام لوٹنا۔ الشَامِت جمع شُمَّت (فا): مصیبت زدہ پر خوش ہونے والا۔ الشَامِتَة جمع شوامِت: شامت کا مؤنث۔ کہتے ہیں: بَاتَ بلیلةِ الشَوامِت: اس نے سخت مصیبت میں رات گزاری۔ باتَ طوعَ الشوامِت: اس نے اس طرح رات گزاری جیسے وہ گزارتا ہے جو دشمنوں کو خوش کرنے والا ہو۔ الشِمَات و الشَمَاتَی: نامراد، ناکام لوگ (اس کا واحد نہیں آتا) کہتے ہیں: رجع القوم شِمَاتًا او شَماتی: لوگ ناکام و نامراد واپس آ گئے۔

۲۔ شَمَّتَ بینهما: دونوں کو جمع کرنا۔

۳۔ الشامِتَة: جانور کی ٹانگ۔

○ شَمِتَ ـ شَمَاتًا و شَمَاتَةً ب: کسی کی مصیبت پر خوش ہونا، کے افسوسناک حادثہ پر فخر و ناز سے دیکھنا۔ شَمَّتَ ہ: کو مایوس کرنا۔ أَشْمَتَ ہ ب: کو دوسرے کے افسوسناک حادثات پر کینہ پرور لطف اندوز ہونے کا باعث بننا۔ شَمات: کینہ پرور لطف اندوزی۔ شَماتة: کینہ جو مسرت، بدباطنی کا کینہ۔ شامِت جمع شُمَّات جمع شوامت (مونث): دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونے والا، کینہ پرور۔

شمج: ۱۔ شَمَجَ ـ شَمْجًا الثوبَ: کپڑے پر دور دور ٹانکے لگانا۔ ــــ هُ عن کذا: کو سے ہٹانا، الگ کرنا۔

۲۔ شَمَجَ ـ شَمْجًا الشیءَ: کو ملانا۔

۳۔ شَمَجَ ـ شَمْجًا فلانًا: کو جلدی کرانا۔ ناقةٌ شَمَجَی: تیز رفتار اونٹنی۔

۴۔ الشَمَاج: انگور کا بقیہ جو کھانے کے بعد پھینک دیا گیا ہو۔

۵۔ شَمْجَرَ الرجُلُ: خوف زدہ کی طرح دوڑنا۔

شمح: الشَّمْحَط و الشِّمحاط و الشُّمْحُوط: بہت لمبا۔

شمخ: ١۔ شَمَخَ ۔ شَمْخًا و شُمُوخًا الجبلُ: پہاڑ کا بلند ہونا۔ صفت: شَامِخ جمع شُمَّخ م شَامِخَة جمع شَوامِخ و شَامِخَات۔ ۔ و شَمَخَ انفَهُ بأنفِهِ: تکبر وفخر سے ناک چڑھانا۔ صفت: شَمَّاخ۔ تَشَمَّخَ بانفه: تکبر کرنا۔ تَشَامَخَ: بلند ہونا، تکبر کرنا۔ الشَّامِخ (فا) نسبٌ شَامِخٌ: شریف نسب۔ رجلٌ شَامِخٌ: بہت متکبر شخص۔ الشَّمَّاخ: شامخ کا اسم مبالغہ۔ جبلٌ شَمَّاخٌ: بہت بلند پہاڑ۔

٢۔ الشِّمْخ: درخت کی شاخ، ٹہنی، چھوٹا درخت (عام بول چال)۔ مفازةٌ شَمُوخ و شَمَخٌ: دور تک پھیلا ہوا بیابان۔

٣۔ شَمْخَرَ شَمْخَرَةً: تکبر کرنا۔ اِشْمَخَرَّ اشمخراراً الشيءُ: لمبا ہونا۔ ۔ الجبلُ: پہاڑ کا بلند ہونا۔ الشُّمَّخْر و الشِّمَّخْر: متکبر شخص، بلند نظر، بڑا اونٹ یا شخص۔

شَمَخَ ۔ شَمْخًا و شُمُوخًا: بلند ہونا، اونچا ہونا، دھندلا سا اور بڑا دکھائی دینا (پہاڑ عمارت وغیرہ)، بہت اونچا ہونا۔ ۔ علی: کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، پر ناک چڑھانا۔ ۔ انفَهُ او بانفِهِ: خودپسند، مغرور، متکبر ہونا۔ تَشَامَخَ: اونچا ہونا، بلند ہونا، دھندلا سا اور بڑا دکھائی دینا (پہاڑ عمارت کا) مغرور ومتکبر ہونا، شیخی بگھارنا۔ تَشَامُخ: مغرور، تکبر، نخوت۔ شَامِخ جمع شُمَّخ و شَوامِخ: اونچا، بلند، بلند و بالا، غرور، متکبر نخوت پسند۔ شامخ الانف: مغرور، متکبر، نخوت پسند، نک چڑھا۔ متشامخ: اونچا، بلند، مغرور، متکبر نخوت پسند، بہت اونچا۔ مُشْمَخِرّ: بلند (عمارت وغیرہ)۔

شمذ: الشِّمْذَر و الشِّمِذَّر و الشِّمْذار: تیزرفتاری۔ الشِّمْذارة و الشَّمَيْذَر: چست نوجوان۔

شمر: ١۔ شَمَرَ ۔ شَمْراً: تیز چلنا، گزرنا، تکبر سے چلنا۔ شَمَّرَ تَشْمِيراً: تیز چلنا، تیزی سے گزر جانا۔ ۔ هُ: کو تیز چلانا۔ ۔ السفينةَ او الصقرَ: کشتی یا شکرے کو چھوڑنا۔ ۔ ت الحربُ و شَمَّرت عن ساقيها: لڑائی کا تیز ہونا، شدت اختیار کرنا۔ ۔ للامر: کسی کا کام کا ارادہ کرنا اور اس کے لئے تیار ہونا۔ ۔ فی الامر: کام میں چستی کرنا۔ ۔ الی المکان: کسی جگہ کا قصد کرنا۔ اَشْمَرَهُ: کو جلدی کرانا۔ تَشَمَّرَ: تیزی سے گزر جانا، تکبر سے گزرنا۔ ۔ للامر: کسی کام کا ارادہ کرنا، کام کے لئے تیار ہونا۔ اِنْشَمَرَ: تیزی سے یا تکبر سے گزرنا۔ ۔ للامر: کام کا ارادہ کرنا، کام کے لئے تیار ہونا۔ الشِّمْر: تجربہ کار، ماہر، دانا، بینا۔ شَرٌّ شَمِرٌ: سخت مصیبت۔ الشِّمِّير و الشِّمَّرِيّ و الشِّمِّرِيّ و الشَّمَرِي: محنتی، کاموں کا کر گزرنے والا، تجربہ کار۔ ۔ من الابل: تیز رفتار اونٹ۔ المُشَمِّر (فا): محنتی، کاموں کا کر گزرنے والا، تجربہ کار۔

٢۔ شَمَرَ ۔ شَمراً النخلَ: درخت خرما سے کھجوریں کاٹنا۔ شَمَّر تشْمِيراً الشيءَ: چیز کو سکیڑنا۔ ۔ الثوبَ عن ساقيه: کپڑے کو پنڈلیوں سے اٹھانا۔ اَشْمَرَهُ بالسيف: کو تلوار سے لپیٹنا کرنا۔ ناقةٌ او شاةٌ شامِرٌ و شامِرَةٌ جمع شوامِر: اونٹ یا بکری جس کے تھن پیٹ سے چپکے ہوئے ہوں۔ لِثَةٌ شامِرَةٌ: دانت کی جڑ سے چپٹا ہوا مسوڑھا۔

٣۔ شَمَرَ ۔ شَمَرات نفسُهُ من الشيء: دل کا کسی چیز سے نفرت کرنا (سریانی عام بول چال)۔

٤۔ الشِّمْر: فیاض، سخی۔ الشُّمْرَة و الشَّمار (ن): ایک قسم کا خوشبودار پودا۔ الشَّمُّور: الماس۔

٥۔ شَمْرَجَ الثوبَ: کپڑے کی اچھی سلائی نہ کرنا اور دور دور ٹانکے بھرنا۔ الشُّمْرُج: باریک بناوٹ کا کپڑا۔ ثوبٌ مُشَمْرَج: باریک بناوٹ کا کپڑا۔

٦۔ شَمْرَجَ فی الكلام: کلام میں گڑبڑ کرنا، کلام کو خلط ملط کرنا۔ الشِّمْراج جمع شَمارِيج: جھوٹ میں خلط ملط کلام۔ الشماريج: باطل اور جھوٹی باتیں۔

٧۔ شَمْرَخَ العِذقَ: کھجور یا انگور کے گچھوں کو کاٹنا۔ الشِّمْراخ جمع شَمارِيخ: کھجور یا انگور کا خوشہ، پہاڑ کی چوٹی، بادل کا بالائی حصہ۔ الشُّمْرُوخ جمع شماريخ: کھجور یا انگور کا خوشہ، موٹی شاخ پر چھوٹی باریک اُگنے والی ٹہنی۔

٨۔ الشُّمارِق و الشماريق و المُشَمْرَق من الثياب: قطع کیا ہوا کپڑا۔

شَمَّرَ هُ: (کپڑا) اٹھانا، چڑھانا، لپیٹنا۔ ۔ : تیار ہونا۔ شَمَّر للامر: کام کا آغاز کرنا۔ ۔ عن ساعدِه: آستین چڑھا کر بازو کا اوپر کا حصہ ننگا کرنا، کام کرنے لگنا۔ ۔ عن ساعد الجد: اپنے قوی مجتمع کرنا۔ تَشَمَّرَ: پھرتی سے کام کرنے لگنا۔ مُشَمِّر: (کسی کام میں) سرگرمی سے منہمک۔ شُمْرُوخ جمع شَمارِيخ: کھجور کے گچھے سے بھرا ہوا ڈنٹھل، شاخ جس کے پتے اتار دیئے گئے ہوں، چھوٹی ٹہنی، بم کی بتی۔

شمز: شَمَزَ ۔ شَمْزات نفسُهُ منه: کو مکروہ سمجھ کر نفرت کرنا۔ تَشَمَّزَ الوجهُ: چہرے کا سکڑنا۔ اِشْمَأَزَّ اِشْمِئْزازًا: (جس کا اسم شُمْأَزِيزة ہے): خوف زدہ ہونا، کراہت سے رونگٹے کھڑے ہونا۔ ۔ الشيءَ: کو مکروہ جاننا۔ ۔ منه: سے منقبض ہونا اور کراہت کی وجہ سے نفرت کرنا۔

اِشْمَأَزَّ: سکڑنا۔ ۔ من: سے دبکنا (خوف وغیرہ سے) پیچھے ہٹنا، پر کانپنا، رونگٹے کھڑے ہونا، سے نفرت کرنا، کراہت کرنا، گھن کھانا، سے سخت نفرت کرنا، کے لئے کراہت محسوس کرنا، سے گھن آنا۔ اِشْمِئْزاز: کپکپی، تھرتھری، لرزہ، کراہت، نفرت، بیزاری، سخت نفرت۔ مُشْمَئِزّ من: سے متنفر، سے گھن کھائے ہوئے، سے برگشتہ۔

شمس: ١۔ شَمَسَ ۔ شُمُوسا و شِماسًا: باز رہنا، انکار کرنا۔ ۔ لَه: سے دشمنی ظاہر کرنا، برائی کا ارادہ کرنا۔ ۔ الفرسُ: گھوڑے کا سرکش ہونا، مچلنا، نہ کسی کو سوار ہونے دینا اور نہ زین کسنے دینا۔ صفت: شَمُوس جمع شُمُس و شُمْس و شَامِس جمع شَوامِس: عام لوگ کہتے ہیں: شَمَّسَ فلاناً عند الناس: اس نے لوگوں میں فلاں پر تہمت لگائی۔ صفت مفعولی: مَشْمُوس: (جس پر تہمت لگائی گئی ہو)۔ شَمِسَ ۔ شَمَسًا لی: (میرے لئے) کسی شخص کی عداوت کا ظاہر ہونا اور اس عداوت کو چھپا نہ سکنا۔ شَمَّسَهُ: کو نفرت دلانا۔ شَامَسَهُ: سے دشمنی کرنا، سے معاندت کرنا۔ تَشَمَّسَ علينا: (ہم سے) بخل کرنا۔ الشَّمُوس: شراب۔ ۔ جمع شُمُس و شُمْس: سخت دشمن اور مخالف۔ الشَّامِس من الخيل جمع شَوامِس: سرکش گھوڑا، مچلتا گھوڑا۔ ۔ من الرجال: سخت مزاج۔ المُتَشَمِّس (فا): بہت قوی، بخیل۔

٢۔ شَمَسَ ۔ شَمْساً و شَمِسَ ۔ شَمَساً و اَشْمَسَ اليومُ: دن کا دھوپ والا ہونا۔ صفت: شَامِس و مُشْمِس۔ شَمَّسَ الكافِرُ: کافر کا سورج کی پرستش کرنا۔ ۔ الشيءَ: چیز کو دھوپ میں پھیلانا۔ تَشَمَّسَ: دھوپ میں بیٹھنا، کھڑا ہونا۔ الشَّمْس (تصغير شُمَيْسَة) جمع شُمُوس (فلك): سورج۔ کہتے ہیں: بسط الشيءَ فی الشمس: اس نے چیز کو دھوپ والی جگہ میں پھیلایا۔ دخلت الشمسُ اِلی البيت: سورج کی کرنیں گھر میں پہنچیں۔ ۔ عند الصوفية: نور یعنی حق تعالیٰ۔ ۔ من الايام: دھوپ والا دن۔ الشَّمُوس و الشَّمُوس من الايام: دھوپ والا دن، جس میں بادل چھائے ہوئے نہ ہوں۔ الشَّامِس (فا) من الايام جمع شَوامِس:

دھوپ والا دن۔ الشَمْسِيَّة: چھتری۔ فصیح تو ظُلَّة یا مِظَلَّة: دھوپ کی چھتری کے لئے و عالة بارش کی چھتری کے لئے ہے۔

۳۔ شَمَّسَ فلانٌ: شمّاس ہونا۔ الشمّاس عیسائیت میں مذہبی خدمات سرانجام دینے والے کے ایک عہدہ کا نام ہے۔ الشمَّاس جمع شَمَامِسَة: پادری سے کم درجہ کے عہدہ کا نام۔ یہ سریانی لفظ ہے اور اس کا معنی خادم ہے۔ الشَمَّاسِية: شمّاس کا وظیفہ۔

۴۔ الشَمُس: ایک قسم کی کنگھی، ایک قسم کا ہار۔ الشُمْسِيَّة (مو): ہرنا، ہرنالٹو۔

○ شَمَسَ ۔ شُمُوسًا و شِماسًا: گھوڑے کا سرکش، اڑیل، آرام سے کھڑا نہ ہونے والا ہونا۔ ـــــ ۔ و شَمِسَ ۔ شَمْسًا: دن کا دھوپ والا ہونا۔ شَمَّسَ ہ کو دھوپ میں رکھنا۔ شَمَّسَ: (مسیحیت میں) ڈیکن deacon کے فرائض سرانجام دینا۔ أَشْمَسَ: (دن کا) دھوپ والا ہونا۔ تَشَمَّسَ: دھوپ میں بیٹھنا، دھوپ کھانا، دھوپ میں لیٹنا۔ سَمْتُ الشَمْس: گرہن سے متعلق۔ شروق الشمس: طلوع آفتاب۔ ضَرْبَةُ الشمس: لُو کا اثر sun stroke۔ گرمی سے نڈھال ہونا۔ عبّاد الشمس: سورج مکھی۔ غروبُ الشمس: غروب آفتاب۔ شمسي: سورج کا، آفتابی، شمسی۔ الحروف الشمسيه: شمسی حروف۔ صورةٌ شمسيّة: فوٹو، فوٹوگراف۔ التصوير الشمسي: فوٹوگرافی۔ شَمْسِيّة جمع شَمْسِيات: چھاتہ چھتری، پردہ، سکرین۔ شمسية الشباك: کھڑکی کا پردہ۔ شمسية الطيار: پیراشوٹ parachute۔ شَمُوس جمع شُمُس: سرکش، اڑیل، آرام سے نہ کھڑا ہونے والا (گھوڑا)۔ شامس: دھوپ والا (دن) مُشْمِس: دھوپ والا (دن)۔

شمص: ا۔ شَمَصَ ۔ شَمْصًا و شَمَّص الدوابَّ: جانور کو بہت تیز ہانکنا۔ ـــــ ہُ بالسوط: کو کوڑے مارنا۔ ـــــ الرجُلَ: کسی کو اذیت دے کر غضبناک کرنا۔ ـــــ ہُ الشيءُ: کو کسی بات کا بے قرار کرنا۔ شَمِصَ ۔ شَمَصًا: جلدی جلدی بولنا۔ أُشْمِصَ و اِنْشَمَصَ: خوفزدہ ہونا۔ تَشَمَّصَ: سکڑنا۔ الشِماص: نکل جانا، بچ جانا۔ الشُمَاص: جلدی، عجلت۔ الشَمُوص من الخيل: سرکش گھوڑا۔

○ شَمْشَمَ ہ: کی ناس لینا۔

شمط: ا۔ شَمَطَ ۔ شَمْطًا الشيءَ: کو ملانا۔ شَمِطَ ۔ شَمَطًا و أَشْمَطَ اشْمِطَاطًا و اشْمَاطَّ اِشْمِئطَاطًا و اشْمَأَطَّ اشْمِئطَاطًا: کے سر کا سیاہ و سفید بالوں والا ہونا۔ صفت: أَشْمَط جمع شُمْط و شُمْطان م شَمْطاء جمع شُمْط۔ شَمَّطَ ہُ به: کو سے ملانا۔ أُشْمِطَ الرجُلَ: خاکستری بالوں والا ہونا، سیاہی مائل سفید بالوں والا ہونا۔ ـــــ ہُ به: کو سے ملانا۔ الشَمَط و الشَمْط و الشِمْط جمع شِماط و أَشْماط: مسالہ۔ الشَمِيطُ: مخلوط، صبح۔ الشَماطَاتُ في الرأس: سر کے سفید بال۔ الشَمُّوط من الخيطان: دھاگے کا گولا یا گٹا۔

۲۔ شَمَطَ ۔ شَمْطًا الشجرُ: درخت کے پتے جھڑنا۔ عام بول چال میں کہتے ہیں: شمط الشيءَ: اس نے چیز ہتھیالی۔ و شمط الغرسةَ: اس نے پودا اکھیڑ دیا۔ شمط أُذنَه: اس نے اس کا کان کھینچا (سریانی)۔ الشِمطاط جمع شَماطِيط: جماعت، گروہ، گلہ۔ کہتے ہیں: جاؤا شماطيط: وہ علیحدہ علیحدہ آئے، الگ الگ آئے۔ ثوبٌ شِمطاط: قطع کیا ہوا کپڑا۔ الشُمْطُوط و الشِمْطِيط: گروہ، جماعت۔

۳۔ شَمَطَ ۔ شَمْطًا الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ ـ النباتُ: پودے کا اونچا اٹھنا (عام بول چال)۔ الشَمُّوط: جوار کا بھٹا (عام بول چال)۔ الشُمْطُوطُ: طویل دراز، لمبا۔

○ شَمِطَ ۔ شَمَطًا: خاکستری، بالوں والا ہونا، سیاہی مائل سفید بالوں والا ہونا، کے بالوں کا خاکستری ہو جانا۔ أشمط م شَمْطَاء جمع شُمْط و شُمطان: خاکستری بالوں والا، سیاہی مائل سفید بالوں والا۔

شمظ: شَمَظَ ۔ شَمْظًا ہُ: کو منع کرنا، روکنا، سے نرم گرم گفتگو کرنا، سختی کئے بغیر اکسانا اور متحرک کرنا۔ ـــــ الشيءَ: کو خلط ملط کرنا، ملانا، گڈمڈ کرنا، کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا۔

شمع: ا۔ شَمَعَ ۔ شَمْعًا و شُمُوعًا و مَشْمَعًا: کھیلنا، مذاق کرنا صفت: شَمُوع۔ کہتے ہیں: أَشامِعٌ أنت أم جاد: یعنی تم مذاق کر رہے ہو یا سنجیدگی میں کہہ رہے ہو۔ شَمَّعَ الرجُلَ: کو کھیل کود یا مذاق پر آمادہ کرنا، اکسانا۔ الشِمَاع و الشِماعَة: ہنسی خوشی، مذاق۔ الشَمُوعُ من النساء: خوش طبع مذاق کرنے والی عورت۔

۲۔ شَمَعَ ۔ شُمُوعًا الشيءُ: متفرق ہونا۔ أَشْمَعَ السِراج: چراغ کا روشن ہونا۔

۳۔ شَمَّعَ الشيءَ: کسی چیز کو پگھلے ہوئے موم میں ڈبونا، یا کسی چیز پر پگھلا ہوا موم ڈالنا۔ الشَمَع و الشَمْع (واحد شَمَعَة و شَمْعَة جمع شَمَعات: موم (شہد یا چربی وغیرہ کا) الشَمَّاع: موم بتی بنانے والا یا بیچنے والا۔ الشَمْعَدَان جمع شَماعِد و شَمْعَدانات: چراغدان لفظ دان فارسی لفظ ہے۔ عربی میں شمعدان کے ہم معنی لفظ مَنائِلة ہے۔ المَشْمَعَة: موم بتی بنانے یا بیچنے کی جگہ۔ المُشَمَّع: پن روک، غیر نفوذ پذیر لباس یا ربڑ کا لباس، برساتی۔

۴۔ إشْمَعَطَّ اشْمِعْطَاطًا: غصہ سے بھر جانا۔ ـــــ القومُ في الطلب: تلاش میں جلدی کرنا اور پھیل جانا۔ ـــــ ت الإبلُ او الخيلُ: اونٹوں یا گھوڑوں کا بکھر جانا۔

۵۔ شَمْعَل و تَشَمْعَل القومُ: متفرق ہونا، پھیل جانا۔ إشْمَعَلَّ القومُ: متفرق ہونا اور پھیل جانا۔ ـــــ ت الحربُ: لڑائی کا بھڑکنا۔ ـــــ ت الغارةُ: لوٹ پھیل جانا۔ ـــــ ت الابلُ: اونٹوں کا خوشی میں آ کر ادھر ادھر پھیل جانا۔ ـــــ الرجُلُ: روانگی میں جلدی کرنا۔

○ شَمَّع ہ: کو موم سے رگڑنا یا ملنا۔ ـــــ الفَتْلَةَ: کھسک جانا، فرار ہو جانا، بھاگ جانا۔ شَمْع و شَمَع اسم جنس واحد شمعة جمع شُمُوع: موم، موم بتی۔ الشمع الاحمر: (مہر لگانے کی) لاکھ (sealing wax)۔ شمعُ الختم: مہر لگانے کی) لاکھ۔ شمع لتلميع الارضية: فلور ویکس flour wax۔ شَمْعَة و شَمَعَة: موم بتی۔ شمعة الشرارة: سپارک پلگ (spark plug): انجن میں گیس بھڑکانے والا پرزہ، آتش زن۔ شمعي: مومی۔ شَمَّاع: موم ساز یا فروش۔ شَمّاعَة: ہیٹ یا کپڑوں کا ریک، کپڑے ٹانگنے کی کھونٹی۔ مُشَمَّع وہ کپڑا جس میں پانی سرایت نہ کرتا ہو۔ مُشَمَّعات: پن روک سامان، کتان کا کپڑا جو غیر نفوذ پذیر ہو۔ پن روک کور یا کوٹ، آئل کلاتھ، مومی کپڑا، کرمچ (linoleum)۔ مُشَمَّع بتيومين للسقف: کولتار کا کاغذ۔ مِعطَفٌ مُشَمَّع: برساتی۔ شَمْعَدان جمع شمعدانات و شَماعِد: شمعدان condle stick۔

شمق: ا۔ شَمِقَ ۔ شَمَقًا: پاگل کی طرح خوش ہونا۔ تَشَمَّقَ: خوش ہونا۔ الشَمَاقَة: خوشی، جنون۔ الشِمِق و الشَمَقْمَق: شادمان۔

۲۔ تَشَمَّق الشيءُ: گھس جانا۔

۳۔ الشِمِق و الشَمَقْمَق: لمبا، طویل۔

شمل: ا۔ شَمَلَ ۔ شُمُولاً ت الريحُ: شمالی ہوا چلنا۔ ـــــ شَمْلاً الشيءَ: کو شمالی ہوا کے سامنے کرنا۔ ـ بِه: کو بائیں جانب لینا۔ شَمِلَ ۔ شَمَلاً

وشَمِلَ شَمْلاً القومُ: شمالی ہوا سے تکلیف پانا۔ شَمَّلَ الرجُلُ: بائیں ہاتھ سے پکڑنا۔ أشْمَلَ القومُ: بادشمالی میں داخل ہونا۔ ـــ ت الريحُ: شمالی ہوا چلنا۔ الشَمْلُ (مص): شمالی ہوا۔ الشَمَل (مص) جمع أشْمَال: شمالی ہوا۔ الشَمَال و الشَمْأَل والشَمْأَل و الشَمِيل و الشَمُول و الشَوْمَل و الشَيْمَل جمع شمالات: شمالی ہوا۔ کہتے ہیں:هبت الشَمَالُ: شمالی ہوا چلی۔ الشِمال جمع شَمَالات: بادشمالی۔ ـــ (مونث) جمع أشْمُل و شَمُل و شِمَال (بلفظ الواحد) و شمائِل: بایاں۔ (کہتے ہیں:فلانٌ عندی بالشِمَال: وہ میرے نزدیک گھٹیا درجے کا ہے۔ هو عندی باليمين: وہ میرے نزدیک اچھے رتبہ والا ہے) بدبختی۔ طيرُ شِمَالٍ: بدشگونی کا پرندہ۔ الشِمال: بایاں، المَشْمُول (مذ م): جس کو بادشمالی کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہو۔ ليلة مشْمُولة: سرد رات۔

۲۔ شَمَلَ ـ شَمْلاً الشاةَ: بکری کے تھنوں پر تھیلا چڑھانا۔ ـــ ـ شَمْلاً و شَمَلاً و شُمُولاً الامرُ القومَ: معاملہ کا سب کو شامل ہونا، عام ہونا۔ کہتے ہیں:شَمَلَ القومَ خيراً أو شرًّا: بھلائی یا برائی کو عام کرنا۔ شَمِلَ ـ شَمْلاً و شَمَلاً و شُمُولاً الامرُ القومَ: معاملہ کا سب کو شامل کرنا۔ ـــ شَمْلاً و شُمُولاً هُ: کو چادر سے ڈھکنا۔ شَمَّلَ تَشْمِيلاً هُ: کو چادر میں لپٹنا۔ أَشْمَلَ الشاةَ: بکری کے تھنوں پر چادر چڑھانا۔ ـــ القومَ خيراً أو شرًّا: بھلائی یا برائی کو عام کرنا۔ ـــ الرجُلُ: بڑی چادر والا ہونا۔ ـــ هُ: کو چادر دینا۔ تَشَمَّلَ تَشَمُّلاً بالشَمْلَة: چادر میں لپٹنا۔ إشْتَمَلَ بالثوب: چادر میں پورا لپٹنا۔ ـــ الامرُ عليه: معاملہ کا کسی کو گھیرنا۔ ـــ على فلان: کو بچانا۔ الشَمْل (ضد): مجتمع امر، متفرق امر۔ کہتے ہیں:فَرَّقَ اللّه شَمْلَهُمْ: اللہ تعالیٰ انکی جمعیت کو تتر بتر کردے۔ جمع اللّه شَمْلَهُم: اللہ تعالیٰ ان کے بکھرے ہوئے کاموں کو اکٹھا کردے۔ الشَمَل جمع أَشمال: پناہ۔ الشَمول: چادر میں لپٹنا، ہوا۔ الشِمال: بکری کے تھنوں پر چڑھانے کا تھیلا، بکری کے تھن کا دانہ، کھیتی کاٹنے والے کے ہاتھ میں کھیتی کا مٹھا، عام اوقات اسے شَمِيلَة کہتے ہیں۔ الشَمْلَة جمع شَمَلات: چوڑی چادر جو پورے جسم کو ڈھانک لے۔ أُمُّ شَمْلَة: دنیا، شراب، سورج۔ الشِمْلَة: لپٹنے کی ہیئت کہتے ہیں:هو حسنُ الشِمْلَة: وہ چادر میں لپٹے اچھا لگتا ہے۔ الشَمَال: جمع شَمَائِل: وہ جگہ جہاں شکاری شکار سے چھپتا ہے۔ الشَمُول: شراب یا سرد شراب۔ المِشْمَل: چھوٹی تلوار، اس کا اطلاق خنجر پر ہوتا ہے۔ ـــ و المِشْمَلَة و المُشْمَل: بڑی چادر جس میں پورا طرح لپٹا جاسکے، کمبل۔ المَشْمُولة: شراب، سرد شراب۔

۳۔ شَمَلَ ـ شَمْلاً النخلةَ: پکی کھجوریں چن لینا۔ أشْمَلَ النخلةَ: پکی پکی کھجوریں چننا۔ الشَمْل و الشِمل: کھجوروں کا گچھا۔ الشَمَل جمع أشمال: تھوڑی بارش یا کھجور یا تھوڑے لوگ وغیرہ۔ کہتے ہیں:اصابنا شَمَلٌ من المطرِ: ہم پر تھوڑی بارش ہوئی۔ ما على النخلة الاشَمَلٌ: کھجور کے درخت پر تھوڑا پھل بچا ہے۔ الشِمِلّ: تھوڑی کھجوروں کا گچھا۔

۴۔ شَمَلَ الرجُلُ: جلدی کرنا۔ إشْتَمَلَ: جلدی کرنا۔ ـــ في الحاجة: آمادہ ہونا، ارادہ کرنا۔ اِنْشَمَلَ: جلدی کرنا۔ کہتے ہیں: اِنشمل في حاجته: اس نے اپنی حاجت میں جلدی کی۔ ناقةٌ شِمالٌ: تیز رفتار اونٹنی۔ ناقةٌ شِمِلَّة: تیز رفتار اونٹنی۔

۵۔ الشِمَال جمع شَمَائِل: طبیعت، عادت، سیرت۔ کہتے ہیں: ليس من شِمَالي أن أعمل بشمالي: میری عادت نہیں کہ بائیں ہاتھ سے کام کروں۔ الشَمِيلَة جمع شمائل: طبیعت۔ المَشْمُول: پسندیدہ اخلاق والا۔ اخلاقٌ مَشْمُولَة: برے اخلاق۔

۶۔ شَمْلَلَ الرجُلُ: جلدی کرنا۔ جملٌ أو ناقةٌ شِمْلال او شِمْلِيل: تیز رفتار اونٹ یا اونٹنی۔

۷۔ شَمْلَلَ النخلةَ: درخت سے پکی پکی کھجوریں چننا۔ الشُمْلُول جمع شَمالِيل: تھوڑی پکی کھجوریں، یا تھوڑی بارش یا تھوڑے لوگ۔ کہتے ہیں:ما على النخلة لا شماليل: کھجور کے درخت پر تھوڑا پھل رہ گیا ہے۔ الشَمَالِيل: شاخیں جن کی چوٹیاں پراگندہ ہوں۔ کہتے ہیں:ذهبوا شماليل: وہ متفرق ہوکر چل گئے۔ ثوبٌ شَمالِيل: پھٹا پرانا کپڑا۔

۸۔ الشِمْلال: بایاں۔

۹۔ امراةٌ شَمْلَق: بدخلق عورت۔

◯ شَمِلَ ـ شَمَلاً و شَمَلَ ـ شَمْلاً و شُمُولاً هُ: پر مشتمل ہونا، کا حاصل ہونا، کو شامل ہونا، محیط ہونا، کو شامل کرنا، داخل کرنا، کو ملفوف کرنا، لف کرنا، منسلک کرنا: کا مفہوم ہونا، کی طرف دلالت کرنا، کا نتیجہ ہونا، سے نتیجہ نکلنا، کا پہلو نکلنا۔ ـــ ہ، ہ: کو قابو میں لانا، کو نڈھال کرنا، میں سرایت کرنا، میں رچ بس جانا، میں پھیل جانا (احساسات کا، جذبات کا)۔ شَمِلَ و شَمَلَ: کا رواج ہونا، عام ہونا، ہمہ گیر ہونا، بلا استثناء ہونا، عالمگیر ہونا۔ شمله بعنايته: کا خیال رکھنا، کی بہبودی یا برتری کے لئے کوشاں ہونا، کو زیر حمایت لینا۔ تَشَمَّلَ بالشَمْلَة: اپنے آپ کو چادر، لبادہ، چوغہ میں لپیٹنا۔ إشْتَمَلَ بمعنى تَشَمَّلَ: اشتمل ہ ب: اپنے آپ کو کسی چیز میں لپیٹنا۔ ـــ على: پر مشتمل ہونا، کو شامل کرنا، کو ملفوف کرنا، لف کرنا، منسلک کرنا، کو لپیٹنا، کا مفہوم ہونا، کی طرف دلالت کرنا، کا نتیجہ ہونا، سے نتیجہ نکلنا، کا پہلو نکلنا۔ شَمْل: متحد کرنا، جمع کرنا، ارتکاز، ایک مرکز پر جمع ہونا، اتحاد، وحدت، اتفاق، موافقت، ہم آہنگی۔ جمع الشمل: بچھڑے ہوؤں کا اجتماع، دوبارہ اتحاد۔ اجتماع الشمل: بچھڑے ہوؤں کا اجتماع، اتحاد، وحدت، اتفاق۔ مَزَّقَ شملهُ: کسی چیز کو تباہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، حصے بخرے کرنا، تقسیم کرنا، توڑنا، پرزے پرزے کرنا۔ شَمْلَة جمع شَمَلات: لبادہ، چوغہ، پگڑی۔ أُمُّ شَمْلَة: دنیا، جہاں، دنیوی خوشیاں، شادمانیاں۔ شَمائِل: خوبیاں، خصائل کردار، سیرت، طبیعت، مزاج، خو، افتاد طبع۔ أشْمَل: زیادہ قابل فہم، زیادہ جامع، زیادہ عام، زیادہ ہمہ گیر۔ شَامِل: جامع، مکمل، عام، ہمہ گیر، عالم گیر، بلا استثناء، کامل، کلی، مجموعی۔ مشمول: شامل، مشتمل، محیط۔ مَشْمُولٌ برعايته: کی سرپرستی یا حمایت سے متمتع، سرفراز۔ مشمولات الوظيفة: جبلی فرائض منصبی۔ مشتمل على: پر مشتمل۔ مُشْتَمَل: بنگلہ (کرایہ کیلئے)۔ مُشْتَمَلات: مشمولات، منسلک اشیاء۔ شَمَال: شمال، اتر، شمالی ہوا۔ شِمال: بایاں ہاتھ، بایاں پہلو، بایاں۔ الشمال: بایاں بازو (سیاست)۔ شِمالَ: کے شمال میں۔ شِمالاً: بائیں جانب، شمال کی طرف، شمال غربي: شمال مغرب، کوكب الشِمال: قطبی ستارہ۔ شمال شرقي: شمال مشرق۔ اليد الشمال: بایاں ہاتھ۔ شِمَالي و شَمَالي: شمالی، شمال کا، بائیں جانب واقع۔ الشماليُّون: بائیں بازو کی جماعتیں: الشفق الشمالي: شمالی روشنیاں۔ شُمْلُول جمع شَمالِيل: تھوڑی مقدار، تھوڑی رقم۔ شَمْلُول: چست، پھرتیلا، تیز، صاف واضح، گہرا، زندہ دل، بشاش، شگفتہ مزاج، پرلطف، زندہ دلانہ۔

شمن: الشَمَنْدر و الشَوَنْدر (ن): چقندر۔

شمه: شَمْهَذَ السِكِّينَ: چھری کو تیز کرنا۔ ـــ الحديدَ: لوہے کو پتلا کرنا۔ الشُمْهُذ: تیز چیز۔

شما: شَمَا ـ شُمُوًّا الرجُلُ: آدمی کی شان بلند ہونا۔ الشَّمَا: موم۔

شنّ: شَنَّ ـ شَنًّا الماءَ علی الشراب: شراب پر پانی چھڑکنا۔شَنَّ و أَشَنَّ الغارۃَ علیهم: پر چاروں طرف سے لوٹ ڈالنا۔الشَّنِین: پانی کا روغنی سیال مادہ۔دودھ جس پر پانی ڈالا گیا ہو۔الشَّنَان: ٹھنڈا پانی، پانی برسانے والا بادل۔مَـاءٌ شُنَان: متفرق الشَّنَانَۃ: مشک یا درخت سے ٹپکنے والا پانی۔

۲۔ شَنَّ ـ شَنًّا و شَنَنًا و أَشَنَّت القربةُ: مشک کا پرانا اور خشک ہونا۔تَشَنَّنَ و تَشَانَّ الجلدُ: کھال کا سوکھ جانا اور سکڑ جانا۔ـــ جلدُ الانسان: انسان کی جلد پر بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑنا۔ـ و اِشْتَنَّ السقاءُ: مشک پرانی ہونا۔الشَّنّ (مص) جمع شِنَان و أَشْنَان و الشَّنَّۃ: چھوٹی پرانی مشک۔کہتے ہیں:قربۃٌ أشنانٌ: پرانی مشک۔قوسٌ شَنَّۃ: قدیم کمان۔الشَّنُون (ضد): موٹا، دبلا، بھوکا۔

۳۔تَشَانَّ الشیئان: دو چیزوں کا باہم ملنا۔

۴۔ الأُشْنَان: ہمزہ کے باب میں دیکھئے۔

۵۔الشُّنْشُنَۃ: کاغذ یا نئے لباس کی سرسراہٹ۔الشِّنْشِنَۃ جمع شَنَاشِن: عادت، طبیعت، گوشت کا ٹکڑا۔

شَنَّ ـ شَنًّا غارۃً: اچانک حملہ کرنا، حملہ کرنا، چڑھائی کرنا۔ـــ علی: پر حملہ کرنا، کے خلاف حملہ شروع کرنا۔أَشَنَّ بمعنی شَنَّ۔شَنّ: پانی کی مشک جمع شُنُون۔مِشَنَّۃ: بے دستہ کی ٹوکری۔

شنأ: ا۔ شَنَأَ و شَنِیَٔ ـ شَنْأً و شِنْأً و شُنْأً و شَنْأَۃً و شَنَآنًا و شَنْآنًا و مَشْنَأً و مَشْنَأَۃً و مَشْنُؤَۃً الرجُلَ: سے بغض رکھنا، دشمنی کرنا، بدخلقی کرنا صفت فاعلی: شَانِیٔ جمع شُنَّاء م شَانِئَۃ جمع شَوَانِیٔ: صفت مفعولی: مَشْنُوٌّ۔ شَنِیٌّ: باوجود خوبرو ہونے کے ناپسندیدہ ہونا۔تَشَانَأَ القومُ: ایک دوسرے سے بغض و دشمنی رکھنا۔الشَّنَاءَۃ: عداوت اور بدخلقی کے ساتھ بغض۔الشَّوَانِیُٔ (الشَّانِئَۃ کی جمع): شَوَانِیُٔ المالِ: فیاضی سے دیا ہوا مال۔الشَّنْآن م شَنْآنۃ و شَنْأَی: بغض رکھنے والا، دشمنی کرنے والا، برا سمجھنے والا۔رجُلٌ شَنَائِیَۃٌ: بغض و دشمنی رکھنے والا۔المِشْنَاءُ: وہ شخص جس سے لوگ بغض رکھیں، اکثر ایسی حرکتیں کرنے والا جن کی وجہ سے لوگ اس سے دشمنی رکھیں۔المَشْنَأُ: قبیح، بدشکل (مذکر، مونث واحد جمع سب میں یکساں) لوگوں سے دشمنی رکھنے والا۔

۲۔ شَنِیءَ ـ شَنَأَۃً الشیءَ: چیز کو نکالنا۔ــ حقَّه و بحقِّه: کے حق کا اقرار کر کے اسے اس کا حق دینا۔

شنب: ا۔ شَنِبَ ـ شَنَبًا الیومُ: دن کا سرد ہونا۔صفت شَانِب و شَنِب: اور اسم الشُّنْبَۃ ـــ الرجُلُ: سفید خوبصورت دانتوں دوالا ہونا۔صفت أَشْنَب و شَانِب و شَنِیب و مِشْنَب۔المَشَانِب: خوشبودار منہ (جمع)۔

۲۔شَنَّبَ الهوی قلبَهُ: محبت کا کسی کے دل میں گھر کر جانا۔الشُّنْبُث و الشُّنَابِث (ح): شیر، موٹا۔

شنب جمع أشناب: مونچھ۔شِنْتِیان جمع شَنَاتِین: عورتوں کے پہننے کی ڈھیلی پتلون۔

شنت: ا۔ الشَّنْتَۃ: چمڑے کا تھیلا، بیگ جس میں کاغذات وغیرہ رکھے جاتے ہیں (عام بول چال)۔

۲۔شَنْتَرَ ثوبَهُ: کا کپڑا پھاڑنا۔الشُّنْتُرَۃُ جمع شَنَاتِر: انگلی (کہتے ہیں: لأضمَّنَّكَ ضمَّ الشَّنَاتِر: میں تمہیں اس طرح گلے لگاؤں گا جیسے انگلیاں ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں) دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔

شنج: شَنِجَ ـ شَنَجًا و أَشْنَجَ و تَشَنَّجَ و انْشَنَجَ الجلدُ: گرمی یا سردی سے کھال کا سکڑنا، ایسی کھال کو شَنِج اور ایسی کھال والے کو شَنِج و أَشْنَج کہتے ہیں۔شَنَّجَهُ: کو سکیڑنا۔الشَّنَج (ح): اونٹ۔التَّشَنُّج: پٹھوں کا سکڑنا، عضلات کا سکڑنا۔

شَنِجَ ـ شَنَجًا: سکڑنا، اینٹھن میں مبتلا ہونا۔تَشَنَّجَ بمعنی شَنِجَ (نیز) پھڑکنا۔تَشَنُّج: سکڑنا، چرمر ہونا (کھال کا)، پٹھے کا اینٹھن کے ساتھ سکڑنا، پھڑکنا، جھٹکا، اینٹھن، کھچاوٹ، دورہ، اکڑن، تشنج، تناؤ۔

شنح: شَنَحَ علیه: کو بھلا برا کہنا۔الشَّنَاح و الشَّنَاحِیّ و الشَّنَاحِیَۃ م شَنَاحِیَۃ: لمبا اور موٹا اونٹ۔

شنخ: ا۔شَنَّخَ النخلَ: درخت خرما کے کانٹے صاف کرنا۔الشِّنَاخ: پہاڑ کی نوک۔

۲۔الشِّنْخَاب جمع شَنَاخِیب: پہاڑ کی چوٹی۔الشُّنْخُوب: شانے کا بالائی حصہ، پیٹھ کا منکا۔ـــ والشُّنْخُوبَۃ جمع شَنَاخِیب: پہاڑ کی چوٹی۔

شُنْخُوبَۃ جمع شَنَاخِیب: بڑی چٹان، گھسا ہوا گول مول پتھر، صخرۃ۔

شند: الشُّنْدُخ: مضبوط، لمبا اور گٹھے ہوئے بدن کا۔(ح): شیر، مکان کی تعمیر یا سفر سے واپسی کی خوشی میں پکایا ہوا کھانا۔

شنر: شَنَّرَ علیه: پر عیب لگانا، الزام لگانا، کی تذلیل کرنا، کی اصلیت بتانا۔الشَّنَار: عار، بے عزتی، ذلت، رسوائی، کھلی بے عزتی، فضیحت۔الشِّنِّیر و الشِّنِّیرَۃ: بدخلق، بڑا شرارتی اور عیبی۔

شنز: الشُّونِیز و الشِّینِیز (ن): کلونجی۔

شُنْشُنَۃ: کاغذ کی سرسراہٹ، تڑقنا، چٹخنا۔شِنْشِنَۃ جمع شَنَاشِن: طبیعت، مزاج، افتادِ طبع، شوق میلان، عادت، رواج، رسم، دستور، قاعدہ۔

شنص: شَنِصَ ـ و شَنَصَ ـ شُنُوصًا به: سے چمٹنا، کے ساتھ ہونا۔فرسٌ شَنَاصٌ و شَنَاصِیّ و شُنَاصِیّ و شَنَاصِیَۃ: عمدہ لمبا مضبوط گھوڑا۔

شنط: الشُّنُط: پکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے۔المُشَنَّط: بھونا ہوا گوشت۔شواءٌ مُشَنَّط: گوشت جسے زیادہ نہ بھونا گیا ہو۔

شُنَیْطَۃ: گرہ، گانٹھ، پھندا۔شَنْطَۃ جمع شُنَط: سوٹ کیس، بستہ، تھیلا، سفری بیگ۔شَنْطَۃُ الید: ہینڈ بیگ۔

شنظ: ا۔ شِنَاظ الجبلِ: پہاڑ کی چوٹی۔کہتے ہیں: امرأۃٌ ذاتُ شِنَاظٍ: گٹھی ہوئی موٹی عورت۔

۲۔ الشُّنْظُب: دراز قامت خوبصورت۔

۳۔شَنْظَرَ بهم: کو گالی دینا۔الشِّنْظِیر جمع شَنَاظِیر و الشِّنْظِیرَۃ و الشُّنْظُورَۃ: بدخلق، پہاڑ سے پھٹ کر گرنے والی چٹان۔شَنَاظِیر الجبل: پہاڑ کے اطراف و کنارے۔

۴۔شَنْظَی به: کو ناپسندیدہ باتیں سنانا۔شُنْظُوَۃُ الجبَل جمع شَنَاظٍ: پہاڑ کی چوٹی، پہاڑ کی ایک جانب۔

شنع: ا۔شَنَعَ ـ شَنْعًا: کو برا جاننا، گالی دینا، بے عزت کرنا۔شَنِعَ ـ شَنَعًا به: کو قبیح سمجھنا۔کہتے ہیں: رأی امرأ شَنِعَ به: اس نے ایک ایسی بات دیکھی جسے برا سمجھا۔شَنُعَ ـ شَنَاعَۃً و شُنْعًا و شَنَعًا و شُنُوعًا: قبیح ہونا۔صفت: شَنِیع جمع شُنُع و شَنِع و أَشْنَع۔شَنَّعَ الرجُلَ: کو بہت برا بھلا کہنا۔ـ علیه الامرَ: کے کام کو قبیح ٹھہرانا۔تَشَنَّعَ القومُ: اختلاف رائے کی وجہ سے لوگوں کی حالت خراب ہونا۔ـــ الرجُلُ: برے کام کا ارادہ کرنا۔ـ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔اسْتَشْنَعَهُ: کو قبیح اور مکروہ جاننا۔الشُّنْعَۃ و الشَّنَاعَۃ و الشَّنُوع: قباحت۔المُشَنَّع: قبیح، بے بنیاد خبریں اڑانے والا۔المَشْنُوع: شرارت اور بدی میں مشہور۔

۲۔شَنَعَ الرجُلُ: تیار ہونا۔ـ و أَشْنَعَ البعیرُ: اونٹ کا دوڑنے میں کوشش کرنا۔تَشَنَّعَ: دوڑنے میں کوشش کرنا۔ـــ للامر: کام کے لئے تیار ہونا۔ـــ السلاحَ: ہتھیار پہننا۔ـ الغارۃَ: عام لوٹ ڈالنا، حملہ کرنا۔ـ الفرسَ: گھوڑے پر سوار ہونا، چڑھنا۔

۳۔الشنعفۃ: لمبائی۔الشُّنْعُوف و الشِّنْعَاف: پہاڑ

کی چوٹی، اونچا پہاڑ، لمبا کمزور آدمی۔

○ شَنُعَ - شَنَعًا و شَنَاعَةً: بدصورت ہونا، کریہ ہونا، سخت ناپسند ہونا، گھناؤنا ہونا، خبیث ہونا، نابکار ہونا، سخت بدنما ہونا، خوفناک ہونا، دہشتناک ہونا، شرمناک ہونا، رسوائی کا موجب ہونا۔ شَنَعَ - شَنْعًا ہ/ب: کو بےعزت کرنا، کی اصلیت ظاہر کرنا، کو بے نقاب کرنا۔ شَنَّعَ علی: پر بہتان باندھنا، کو بدنام کرنا، گالی دینا، بدنام کرنا، رسوا کرنا، ازالہ حیثیت عرفی کرنا، کو برا بھلا کہنا، پر عیب لگانا، کو رد کرنا، کو ملامت کرنا۔ شنیع و شَنِع: بدصورت، نفرت انگیز، کریہ، سخت ناپسندیدہ، گھناؤنا، خبیث، نابکار، سخت بدنما، خوفناک، دہشتناک، شرمناک، رسوائی کا موجب، رسوا کن، فضیحت ناک۔ شَنْعَة: بدصورتی، گھناؤنا پن، خوفناکی، دہشتناکی، کراہت، گھن۔ أشنع: بمعنی شنیع و شَنِع۔ شنغوبه جمع شناغیب: کانٹا، تیزنوک، تیزنوک والی کیلی۔ شَنَفَ الآذان: (آواز کا) فردوس گوش ہونا۔ شَنْف جمع شُنُوف: کان کی بالی، آویزہ، بُندہ۔

شنف: ۱۔ شَنَفَ - شَنْفًا الیه: کو اعتراض یا تعجب کی نظر سے دیکھنا۔ شَنَّفَ الیه: کو کنکھیوں سے دیکھنا۔ الشَّانِف (فا): اعراض کرنے والا۔ کہتے ہیں: انه لشانِفٌ عنا بانفه: وہ تکبر کی وجہ سے ہم سے کنی کتراتا ہے۔

۲۔ شَنِفَ - شَنَفًا فلانًا و لفلانٍ: سے بغض رکھنا، نفرت کرنا۔ الشنِف: بغض رکھنے والا۔

۳۔ شَنِفَ - شَنَفًا لَهُ: کو سمجھ جانا، تاڑ جانا۔ ــ به: کو تاڑ جانا۔

۴۔ شَنَّفَ الجاریةَ: لڑکی کے لئے بالیاں بنانا۔ ــ الکلامَ: کلام کو مزین کرنا۔ اَشْنَفَ الجاریةَ: لڑکی کے لئے بالیاں بنانا۔ تَشَنَّفَت الجاریةُ: لڑکی کا بالیاں پہننا۔ الشَّنْف جمع شُنُوف و اَشْنَاف: کان کی بالیاں۔

شنق: ۱۔ شَنَقَ - شَنْقًا البعیرَ: سوار کا اونٹ کی نکیل کھینچ کر اس کا سر اونچا کرنا۔ ــ القربةَ: مشک کا تسمہ باندھنا۔ ــ راسَ الدابَّة: جانور کے سر کو کسی درخت یا اونچی کھونٹی سے باندھنا۔ ــ الشیءَ: چیز کو لٹکانا۔ ــ الخلیَّةَ: شہد کے چھتے میں لکڑی ڈالنا۔ ــ شَنَقًا و شَنِقَ - شَنَقًا: کسی چیز سے محبت کرنا، دل لگانا۔ شَنَّقَ الخلیَّةَ: شہد کے چھتے میں لکڑی ڈالنا۔ اَشْنَقَ البعیرَ و القربةَ: بمعنی شَنَقَ البعیرَ و القربةَ۔ ــ البعیرُ: اونٹ کا اپنا سر اٹھانا۔ ــ علی فلانٍ: پر دست درازی کرنا۔ ــ الشیءَ: کو لٹکانا۔ ــ الیدَ الی العُنق: ہاتھ کو گلے میں ڈال کر طوق بنانا۔ الشَّنْق: مجرم کی گردن سے رسی باندھ کر اس کو موت تک لٹکائے رکھنا، پھانسی دینا۔ الشَّنَق: رسی، سر کی لمبائی۔ الشِّنَاق جمع شُنُق و اَشْنِقَة: تسمہ یا ڈوری جس سے مشک کا منہ باندھا جاتا ہے، تانت، سر کی لمبائی، ہر وہ ڈوری جس سے کوئی چیز لٹکائی جائے، اونٹ کے سر کو کھینچنے کی رسی، رسی جس سے ہاتھ گردن سے باندھا جائے۔ القلبُ الشَّنِق جمع اَشناق: ہر چیز کا مشتاق اور حریص دل۔ فرسٌ اَشْنَقُ م شَنْقَاء و شِنْقَاء: لمبے سر کا گھوڑا، اسی طرح لمبے سر کا اونٹ۔ الشَّنِیق: پھانسی دیا ہوا، لکڑی جو شہد کے چھتے میں ڈالی جاتی ہے۔ المِشْنَاق: ہر چیز کا حریص۔ المَشْنَقَة: پھانسی گھر، پھانسی کا آلہ۔

۲۔ شَنَقَ الشیءَ: چیز کو کاٹنا، ٹکڑے کرنا۔ شَانَقَ مُشَانَقَةً و شِنَاقًا ہ: اپنے مال کو کسی کے مال میں ملانا۔ اَشْنَقَ الرجُلُ (ضد): خون بہا لینا، یا اس پر خون بہا کا واجب ہونا۔ ــ غَنَمَهُ الی غنم زیدٍ: کی بکریوں کے ساتھ اپنی بکریوں کو ملا کر ان کی تعداد بڑھانا۔ تَشَانَقَا: اپنے مال کو دوسرے کے مال کے ساتھ ملانا۔ الشَّنَق: خون بہا۔ المُشَنَّق: قطع کیا ہوا۔

۳۔ الشَّنَق: خون بہا۔ الشَّنِیق: منہ بولا بیٹا۔ الشَّنِیق: خودپسند، مغرور۔

○ شَنَقَ - شَنْقًا ہ: کو لٹکانا۔ ــ ہ: کو پھانسی دینا۔ شنق: پھانسی دینا۔ شَنَق: رسی۔ مِشْنَقَة جمع مَشَانِق: پھانسی، پھانسی کا چوکھٹا، سولی، پھانسی کا تختہ، پھانسی گھر۔ مُشْنَقَة: پھانسی کا چوکھٹا، پھانسی، سولی۔ مَشْنُوق: جسے پھانسی دی گئی ہو۔ شُنْقُب: چہا (ایک پرندہ)۔

شنک: الشُّنْکُل جمع شَنَاکِل: کپڑوں کی کھونٹی، ہک، کھونٹی، آنکڑا۔

○ شنکل ہ: کو آنکڑا لگانا۔

شنم: شَنَمَ - شَنْمًا الجلدَ: چمڑہ چھیلنا۔ الشُّنُم: کن کٹے۔ ماءٌ شَنِم: ٹھنڈا پانی۔

شنه: شَنْهَقَ او شَهْنَقَ الحمارُ: گدھے کا رینگنا۔

فصیح نهق یا شهق ہے۔

شنی: الشانیة جمع شَوَانٍ: بڑا جنگی جہاز۔ (مفرد نادر الاستعمال ہے)

شهب: شَهِبَ - و شَهُبَ - شَهَبًا: سیاہی مائل سفید رنگ ہونا، صفت اَشْهَب و اَشْهَب - شَهَّبَ - شَهْبًا و شَهَّبَهُ الحرُّ: گرمی کا کسی کو جھلس دینا۔ اَشهب العامُ القومَ: سال کا قوم کو اموال سے محروم کرنا اور مال نیست و نابود کرنا۔ اِشْهَبَّ و اِشْهَابَّ و اِشْتَهَبَ: سیاہی مائل سفید رنگ والا ہونا۔ ــ الزرعُ: کھیتی کا خشک اور زرد ہونا مگر بیچ میں کچھ سبزہ رہ جانا۔ الشَّهْب (مص): برف سے ڈھکا ہوا پہاڑ۔ الشَّهَب والشُّهْبَة: سیاہی مائل سفید رنگ۔ الشَّهَابُ و الشَّهَابَة: وہ دودھ جس میں دو تہائی پانی ہو۔ الشِّهَاب جمع شُهُب و شُهْبَان و شِهْبَان و اَشْهُب: آگ کی چمک، ستارہ، ٹوٹنے والا ستارہ، نیزہ کا چمکدار پھل۔ کہتے ہیں: فلانٌ شهابُ حرب: فلاں جنگ جو اور دلیر ہے۔ (ا ع): گولوں بموں وغیرہ میں رکھے جانے والا سامان جو انہیں آگ لگاتا ہے۔ الشُّهُب: قمری مہینہ کی تین سفید راتیں تیرہ سے پندرہویں راتیں) کیوں کہ ان راتوں میں چاند انہیں مکمل روشن رکھتا ہے۔ الأشهب (ح): شیر، مشکل کام۔ عامٌ اَشْهَب جمع شُهْب: قحط اور خوشحالی کا سال۔ یومٌ اَشْهَب: سرد ہواؤں والا اور برفیلا دن۔ جیشٌ اَشْهَب: بڑا طاقتور لشکر۔ الشَّهْبَاء: الأَشْهَب کا مونث، حلب شہر کا لقب۔ ــ من الکتائب: بڑی مختلف و متعدد اسلحہ سے لیس بٹالین۔ سَنَةٌ شَهْبَاء: وہ سال جس میں نہ سبزہ ہو نہ بارش یا بکثرت برف باری والا سال۔ الأشاهب: منذر، لخمی کی اولاد کا نام۔

○ شَهَب و شُهْبَة: خاکستری رنگ، خاکستری، سیاہی مائل سفید۔ شِهَاب جمع شُهُب و شُهْبان: لو، شعلہ، لپٹ، آگ، شہاب ثاقب، روشن ستارہ، ستارہ۔ اَشْهَب جمع شَهْبَاء جمع شُهْب: خاکستری۔ شام کے شہر حلب کا لقب (Alleppo)۔

شهد: ۱۔ شَهِدَ - شُهُودًا المجلسَ: مجلس میں حاضر ہونا۔ ــ الشیءَ: کسی چیز کا معائنہ کرنا، سے آگاہ ہونا، واقف ہونا۔ ــ الجمعةَ: جمعہ پانا۔ ــ شهادةَ اللّٰهُ: اللہ کا جاننا یا اللہ کا قبول کرنا۔ شاهَدَ مُشاهدةً ہ: کو دیکھنا، کا معائنہ کرنا۔ اَشْهَدَہُ: کو حاضر کرنا۔ الشَّاهِد (فلک): ستارہ۔ صلاةُ الشَّاهِد: مغرب کی نماز۔ الشَّاهِدَة جمع شَاهِدات و شَوَاهِد: زمین۔ الشَّهَادة: عالم ظاہر (عالم غیب کا مقابل)۔ الشَّهِیدُ و الشَّهِید: جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ المَشْهَد جمع مَشَاهِد: لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ، لوگوں کے اجتماع کی جگہ۔ المَشْهَدَة و المَشْهُدَة: لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔ امراةٌ

مُشْهِدٌ: وہ عورت جس کا خاوند موجود ہو۔ اس کا مقابل ہے: امراۃٌ مُغِیبة: وہ عورت جس کا خاوند غائب ہو۔ المَشْهُود (مفع): جمعہ کا دن، قیامت کا دن۔

۳۔ شَهِدَ - شُهُودًا علی کذا: کی گواہی دینا۔ صفت: شاهد جمع شُهُود و شُهَّد۔ شَهَادَةً بکذا: کی قسم کھانا۔ — و شَهُدَ - شَهَادَةً عند الحاکم لفلان او علی فلان: حاکم کے روبرو کسی کے متعلق (یا کے حق میں یا خلاف) گواہی دینا۔ صفت: شَاهِد جمع شَهُد و شُهُود و أَشْهاد۔ أَشْهَد فلاناً علی کذا: فلاں کو کسی پر گواہ بنانا۔ أُشْهِدَ: راہ خدا میں قتل ہونا۔ تَشَهَّدَ: شہادت (گواہی) طلب کرنا۔ — المسلمُ: مسلمان کا نماز میں التحیات پڑھنا جو دو شہادتوں پر مشتمل ہے۔ اسْتَشْهَدَہٗ: کو گواہی دینے کے لئے کہنا۔ — بہ: سے گواہی میں مدد لینا۔ اُسْتُشْهِدَ: اللہ کی راہ میں شہید ہونا۔ الشَاهِد (فا): جو اس چیز کی اطلاع دے جو اس نے دیکھی تھی۔ فرشتہ، زبان۔ اسی سے یہ قول ہے: ماله رواءٌ ولاشاهِدٌ: نہ وہ خوش منظر ہے نہ خوش بیان۔ نحو وغیرہ کے قواعد میں عربی زبان کے ماہرین کا ثبوت میں پیش کیا جانے والا کلام۔ الشاهِدَة جمع شاهِدات و شواهِد: شاهد کا مؤنث۔ الشهادَة (مص): یقینی اطلاع یا خبر، گواہی، قسم، اللہ کے راستے میں موت، ڈاکٹر کی مریض کو بیماری یا صحت کا سرٹیفکیٹ، حکومت یا مدرسہ کی طرف سے جاری کردہ امتحان میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ۔ — الابتدائیة: جونیئر ہائی سکول سرٹیفکیٹ، سیکنڈری سکول کے چار سال مکمل کرنے پر جاری کردہ سرٹیفکیٹ۔ الشهید و الشِهید: گواہی میں امین، حاضر۔ — جمع شُهَدَاء م شَهِيدَة: اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہونے والا۔ اسم الشهادة المَشْهَد جمع مشاهِد: شہید کے قتل ہونے کی جگہ۔ المُشْهَد: اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا۔

۴۔ الشُهْد و الشَهْد جمع شِهَاد: وہ شہد جو موم سے نچوڑ کر نکالا نہ گیا ہو۔ الشُهْدَة و الشَهْدَة: زیادہ صاف شہد۔ الشاهِد من الامور: فوری کام۔

۵۔ شَهِدَ - شُهُودا ہ: کو دیکھنا، کا گواہ ہونا؛ کسی چیز کا ذاتی تجربہ کرنا۔ — ہ: کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کا چشم دید گواہ ہونا۔ شَهِدَ ہ: کسی جگہ پر موجود ہونا۔ — ہ: (تقریب) میں حاضر ہونا۔ — ہ: کسی کے عوام کے سامنے ہونے پر موجود ہونا۔ — ہ: کو دیکھنا۔ — شَهادَةً: گواہی دینا، شہادت دینا۔ — ب: کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا۔ - ان: تصدیق کرنا کہ۔ — علی: کے خلاف گواہی دینا، کے بارے میں یا کی گواہی دینا۔ - ل: کے حق میں گواہی دینا۔ - علی: (کسی دستاویز) کی گواہی دینا۔ — باللّٰه: اللہ کی قسم کھانا۔ — قانونیاً: بطور ناظر رجسٹری تصدیق کرنا natarize۔ شاهد ہ: کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھنا، دیکھنا، کا معائنہ کرنا، مشاہدہ کرنا، کی تصدیق کرنا۔ أَشْهَدَہ علی: کے لئے کسی کو بطور گواہ طلب کرنا۔ أُشْهِدَ: شہید ہونا۔ اِسْتَشْهَدَہ/ب علی فی: کو کسی معاملہ میں کے خلاف یا حق میں بطور گواہ پیش ہونے کے لئے کہنا یا اس کا کسی معاملہ میں کسی کے خلاف یا حق میں بطور گواہ حوالہ دینا۔ استشهدب: کا حوالہ دینا، کا قول پیش کرنا، سے اقتباس پیش کرنا۔ اُسْتُشْهِد: شہید ہونا۔ شَهْد و شُهْد: شہد، شہد کا چھتہ۔ شَهْدَة: دنبل۔ شَهِید جمع شُهَدَاء: گواہ، شہید۔ شهیدة: (عورت) شہید۔ شهادة: شہادت، گواہی، بیان، سرٹیفکیٹ، سند، تصدیق، صداقت نامہ، حلف نامہ، تحریری حلفیہ بیان، سرکاری تصدیق، تصدیق نامہ، مراسلہء تعارف، شناخت، شہادت (اسلامی عقیدہ پر مبنی کلمہ) شہادت جیسے: شهادة ان لا الٰه الا الله و ان محمداً عبده و رسوله۔ شهادة الاثبات: استغاثہ کے حق میں گواہی۔ شهادةُ حسن السیر و السلوك: اچھے چال چلن کا سرٹیفکیٹ۔ شهادة خلو الطرف عن العمل: کسی عہدے سے سبکدوش ہونے کا سرٹیفکیٹ۔ شهادة الدراسة الثانوية: سیکنڈری سکول ڈپلوما۔ شهادةُ زُور: جھوٹی گواہی۔ شهادة علی شهادة: بالواسطہ شہادت۔ شهادة العَالِمية: اعلیٰ تعلیم کا ڈپلوما۔ الاظہر یونیورسٹی کی اعلیٰ ترین تعلیم کا ڈپلوما۔ شهادة عالية: ڈپلوما۔ شهادة النفی: صفائی کے حق میں گواہی۔ شهادة الولادة: پیدائش کا سرٹیفکیٹ۔ مَشْهَد جمع مَشَاهِد: جائے اجتماع، اجتماع، وہ جگہ جہاں کوئی شہید ہوا ہو۔ مذہبی یا مقدس بارگاہ مزار، روضہ، جلوس، منظر، نظارہ، دلچسپی کی جگہ یا چیز، جائے وقوع، رخ، پہلو۔ مشهد غنائی: گانے کا منظر، نغمہ سرائی۔ مشاهد الحیاة: زندگی کے پہلو، رخ۔ مشاهَدہ: دیکھنا، معائنہ جمع مشاهدات: منظر، نظارہ؛ سایہ، بھوت، خواب، تصور، سیاسی دوراندیشی یا فراست، دوربین فراست۔ إشهاد جمع اشهادات: تحریری تصدیق۔ اِستشهاد: حوالہ، اقتباس، قول۔ شاهد جمع شُهُود و شُهَّد: حاضر، موجود، شُهُود و أَشْهَاد (علی: کا) گواہ، وثیقہ نویس، ناظر رجسٹری۔ جمع شَواهِد (علی: کے لئے شہادت (کا ایک حصہ) تصدیق، اقتباس (قول) جو متن کی شہادت کا کام دے، شہادت، تصدیقی بیان، قبر کا کتبہ، سنگ مزار، لوح مزار، کتبہ۔ شاهد الإثبات: استغاثہ کا گواہ۔ شاهِد السمع: شنید کا گواہ۔ شاهد العین، شاهد عِیَان، شاهد عِیانی: چشم دید گواہ۔ شاهد النفی: گواہ صفائی۔ علی رؤوس الأشهاد: برسرعام، کھلم کھلا، علی الاعلان۔ شاهِدَة جمع شواهد: قبر کا کتبہ، سنگ مزار، لوح مزار، کتبہ، انگشت شہادت، اصلی نقل، چٹھی کی نقل، نقل مطابق اصل، نقل۔ مثنی۔ الشاهِدَة: زمین (the Earth)۔ مَشْهُود: گواہوں اور ناظرین کے سامنے واقع ہونیوالا، بہت سے ناظرین کے سامنے ہونے والا، حاضرین کی اچھی خاصی تعداد کی موجودگی والا؛ یادگار (دن، واقعہ)۔ بالجرم المشهود: رنگے ہاتھوں، جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے۔ الیوم المشهود: یوم البعث، جشن کا دن، خوشی کا دن، تہوار کی عام چھٹی کا دن۔ مُشَاهِد جمع مُشَاهِدون: ناظر، تماشائی، دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا۔ مُشَاهَد: مرئی، جو دیکھا جا سکے، محسوس، قابل ادراک۔ جمع مُشَاهَدات: مرئی اشیاء، مناظر۔

شهر: ۱۔ شَهَرَ - شَهْراً ہٗ بکذا: کو کسی بات سے مشہور کرنا۔ — السیفَ: تلوار سونت کر بلند ہونا۔ شَهَّرہ بکذا: کو سے مشہور کرنا۔ — فلاناً: کو رسوا کرنا، بدنام کرنا۔ — السیفَ: تلوار سونت کر بلند کرنا۔ أَشْهَرَ الامرَ: کسی امر کو ظاہر کرنا اور مشہور کرنا۔ إشْتَهَر الامرُ: کسی امر کا مشہور ہونا۔ — الأمرَ: کسی امر کو مشہور کرنا۔ إشْتَهَر بالفضل: کسی کا فضیلت میں شہرت حاصل کرنا۔ الشَهْر (مص) جمع أَشْهُر و شُهُور: دانا، ہلال چاند۔ الشُهْرَة: برائی میں شہرت، شہرت، رسوائی۔ الشَهِیر م شَهِیرَة: مشہور، نامور۔ المشهور م مشْهُورَة: مشہور، نامور۔

۲۔ شَاهَرَ شِهاراً و مُشَاهَرَةً ہٗ: کو ایک مہینہ کے لئے نوکر رکھنا۔ أَشْهَرَ: پر ایک مہینہ گزرنا۔ کہتے ہیں: أَشْهَرنا فی هذا المکان: ہم نے اس جگہ ایک مہینہ قیام کیا۔ — المرأةُ: عورت کا جننے کے مہینہ میں داخل ہونا۔ الشَهْر جمع أَشْهُرٌ و شُهُورٌ: مہینہ۔ الشُهُورُ الشمسیة: شمسی مہینے: کانون الثانی (۳۱ دن): جنوری۔ شباط: (۲۸ یا ۲۹ دن) فروری۔ اذار: (۳۱ دن) مارچ۔ نیسان: (۳۰ دن) اپریل۔ ایّار: (۳۱ دن)

مئی۔ حزیران:(۳۰دن)جون۔ تموز: (۳۱ دن)جولائی۔ آب:(۳۱دن)اگست۔ ایلول: (۳۰دن)ستمبر۔ تشرین الاول:(۳۱دن)اکتوبر۔ تشرین الثانی: (۳۰دن)نومبر۔ کانون الاول: (۳۱دن)دسمبر۔ الشُّهُور القَمَرِيَّة: محرم(۳۰ دن)، صفر(۲۹ دن)، ربیع الاول (۳۰ دن)، ربیع الثانی (۲۹ دن)، جمادی الاُولی (۳۰ دن)، جمادی الآخرۃ (۲۹ دن)، رجب (۳۰ دن)، شعبان (۲۹ دن)، رمضان (۳۰ دن)، شوال (۲۹ دن)، ذوالقعدہ(۳۰دن)، ذوالحجہ(۲۹دن)۔عربوں کے ہاں الأشهر الحُرُم (مقدس مہینے) چار ہیں، جو یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، تین مہینے لگاتار اور ایک الگ ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرب ان مہینوں میں لڑائی جائز نہیں سمجھتے تھے سوائے بنی خثعم وطی کے، جوان مہینوں میں جنگ کو جائز سمجھتے تھے۔

○ شَهَرَ ہ ہ: کو مشہور کرنا، بدنام کرنا، رسوا کرنا۔ ـــ ہ: کو پھیلانا، ظاہر کرنا، فاش کرنا، افشا کرنا، کا باضابطہ یا سرکاری طور پر اعلان کرنا، اعلان کرنا۔ ہ: (ہتھیار) نکالنا، نیام سے نکالنا۔ شُهِرَ: مشہور ہونا یا ہوجانا، بدنام ہونا یا ہو جانا۔ (ب سے کے کیلئے کے نام سے)۔ شهر الحربَ على: کے خلاف اعلان جنگ کرنا۔ شهر البندقية على: پر بندوق تاننا۔ شَهَّرَ ہ ہ: کو مشہور کرنا، بدنام کرنا۔ ـــ ہ: کو پھیلانا، ظاہر کرنا، فاش کرنا، افشا کرنا، کا باضابطہ یا سرکاری طور پر اعلان کرنا، اعلان کرنا۔ ـــ ہ: کو بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا، افتراء کرنا، کو سرعام گالیاں دینا، رسوا کرنا، برا بھلا کہنا، کی مذمت کرنا، کو اعلانیہ مجرم ٹھہرانا۔ شَاهَرَہ: کسی کو ایک ماہ کے لئے نوکر رکھنا، کام پر لگانا۔ ہ: کو ایک ماہ کے لئے کرایہ پر لینا۔ أَشْهَرَ ہ: کو ظاہر کرنا، کا سرکاری طور پر یا باضابطہ اعلان کرنا، اعلان کرنا، کو پھیلانا، افشا کرنا۔ ـــ ہ: (ہتھیار) نکالنا، (تلوار) میان سے نکالنا۔ أَشْهَرَ و أُشْهِرَ المزادَ: نیلامی میں فروخت کرنا۔ أَشْهَرَ مَزَادَ بيع شيء: کو نیلام کرنا، کو نیلامی میں رکھنا۔ إشْتَهَرَ: (ب سے کے لئے یا کے نام سے) مشہور ہونا یا ہو جانا، بدنام ہو جانا۔ ـــ عن: کی (کوئی خصوصیت وغیرہ) معلوم ہونا۔ إشْتُهِر: دور دور تک پھیلا ہونا، عام ہونا۔ شَهْر جمع أَشْهُر و شُهُور: نیا چاند (ہلال)، مہینہ۔ شَهْرُ العسل: ہنی مون، ماہ عسل۔ شهري: ماہانہ، ماہوار۔ شهريًا: ماہانہ، ماہوار۔ إشْتِراك شهري: ماہانہ چندہ، ماہانہ فیس۔ نصفُ شهري: پندرہ روزہ۔ شَهْرِيَّة: ماہانہ تنخواہ۔ شُهْرَة: شہرت، مشہوری، رسوائی، بدنامی۔ تشہیر، خاندانی نام۔ شُهرة عالمية: عالمگیر شہرت۔ شَهِير (ب): (کے نام سے) معروف، مشہور، بدنام۔ أَشْهَر: زیادہ معروف، زیادہ مشہور۔ مُشَاهَرَة: ماہوار تنخواہ جمع مشاهرات: ماہانہ ادائیگیاں، ماہانہ الاؤنس۔ مُشَاهَرَةً: ماہانہ، ماہوار۔ إشْهَار: اعلان، سرکاری یا باضابطہ اعلان، اعلان، نیلامی، پبلسٹی، ایڈورٹائزنگ۔ إشْهَارُ الافلاس: دیوالہ یا دیوالیہ پن کا نوٹس، دیوالیہ پن کا بیان۔ اشتهار: شہرت، مشہوری، بدنامی، رسوائی۔ مَشْهُور جمع مَشَاهِير: مشہور، معروف، بدنام، رسواء، دور دور تک پھیلا ہوا، عام مشہور نامی گرامی شخصیت، مشہور شخصیت، نامور شخصیت۔ على المشهور: عام خیال کے مطابق جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے (تھا۔ مُشْهُور: معروف، مشہور، نامور، بدنام، رسوا۔

شهق: شَهَقَ ـ و شَهِقَ ـ شَهِيقًا و تَشْهَاقًا الحمارُ: گدھے کا رینگنا۔ شَهِيقًا و تَشْهَاقًا و شُهَاقًا الرجلُ: رونے میں ہچکی لینا، غرغرہ والا ہونا۔ شُهُوقًا الجبلُ وغيرُہ: پہاڑ وغیرہ کا بلند ہونا صفت شاهِق۔ کہتے ہیں: شهق الرجُلُ: مرد نے سانس کھینچ کر سسکیاں لیں۔ شهقت عيني عليه: میری نظر اس پر گڑ گئی۔ (یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز یا شخص اچھا لگے)۔ تَشَهَّقَ عليه: کسی پر نظر جما دینا۔ ذو شاهِق: سخت غضبناک۔ الشَّهْقَة: اسم مرة، چیخ۔ (کہتے ہیں: شهق فلان شهقة الموت: اس نے موت کی چیخ ماری)۔ ـــ عند العامة (طب): کالی کھانسی۔ التَّشْهَاق (مص): کہتے ہیں: ضحكٌ تشهاق: زور کی ہنسی۔

○ شَهَقَ ـ شَهِيقًا: (گدھے کا رینگنا) ـــ و شَهِقَ ـ شَهِيقًا و شُهَاقًا و تَشْهَاقًا: سانس اندر کو کھینچنا، گہری آہ بھرنا، سسکیاں بھرنا یا لینا، کراہنا۔ أَشْهَقَ بالبكاء: زور زور سے رونے لگنا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگنا۔ شَهْقَة: گہری آہ (بھرنا)، سسکی (بھرنا، لینا)۔ شهيق: (گدھے کا) رینگنا، سسکیاں لینا، سسکیاں، آہ بھرنا، آہیں، سانس اندر کھینچنا، لینا۔ شَاهِق جمع شواهِق: بلند، اونچا (پہاڑ یا عمارت)۔ علو شاهق: ہولناک بلندی۔ شواهِق: بلندیاں، اونچی جگہیں۔

شهل: شَهِلَ ـ شَهَلًا و اشْهَلَّ اشْهِلالًا: آنکھ کا نیلگوں سیاہ ہونا۔ صفت: أَشْهَل م شَهْلاء جمع شُهْل: کہتے ہیں: عينٌ شَهْلاء: نیلگوں سیاہ آنکھ۔ شَهَلَ ثوبَهُ ف تَشْهَلَ: لباس کو چھوٹا کرنا یا تھوڑا سا اوپر اٹھانا جس سے اس کا چھوٹا یا اونچا ہو جانا (عام بول چال میں)۔ ـــ في عمله فتشهّل: بڑا کام مکمل کرنا اور اس کا مکمل ہو جانا یا کام جلدی میں کر لینا (عام بول چال)۔ شاهَل مُشَاهَلَةً ہ: باہم گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کی چٹکی لینا۔ تَشَهَّل: چہرے کی رونق کا جاتا رہنا۔ الشَّهَل و الشُّهْلَة: (آنکھ کا) سیاہ نیلگوں رنگ۔ الشَّهْلَة: بڑھیا۔ الشَّهْلاء: حاجت۔ کہتے ہیں: قضيتُ من فلان شَهْلائي: میں نے فلاں سے اپنی حاجت پوری کی۔

○ شَهَّلَ ہ: کو تیز تر کرنا یا کی چال یا دوڑ بڑھانا، تیز کرنا، تیز لے جانا یا چلانا، جلدی کرنا، چلتا کرنا۔ ـ ہ: کو جلدی سے ہٹانا۔ شَهْل: تیز، فوری، مستعد۔ شُهْلَة: آنکھوں کا سیاہ نیلا رنگ۔

شهم: ۱۔ شَهَمَ ـ شَهْمًا و شُهُومًا الفرسَ: گھوڑے کو ڈانٹنا، للکارنا۔ ـــ الرجلَ: کو گھبرا دینا، ڈرانا۔ المَشْهُوم: خوفزدہ۔

۲۔ شَهُمَ ـ شَهَامَةً و شُهُومَةً: تیز فہم ہونا، ذکی ہونا۔ الشَّهْم جمع شِهَام: ذکی القلب، سردار جس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہو۔ ـــ جمع شُهُوم: چست تیز رفتار اور طاقتور گھوڑا۔ المَشْهُوم: تیز خاطر۔

۳۔ الشَّيْهَم جمع شَيَاهِم (ح): زریکی۔ الشَّيْهَمة: بڑھیا۔

○ شَهْم جمع شِهَام: زیرک، دانشمند، ذکی ہوشیار، چالاک، سیانا، تیز فہم، تیز زیرک، نڈر، بے خوف، منچلا، دلیر، جوانمرد، بہادر، مشہور، توانا، طاقت ور، باہمت، مستعد، سرگرم، اونچے خاندان کا، عالی نسب، امیرزادہ، نواب، تعلق دار، شجاع، شاندار، مہذب، شائستہ، معقول، آبرومندانہ، بھلا مانس، شریف۔ شَهَامَة: بصیرت، فراست، زیرکی، چالاکی، ہوشیاری، جسارت، دلیری، بہادری، شریف النفسی، قوت، طاقت زور، جوش، سلیقہ، شائستگی، معقولیت، مذاق سلیم، پاس لحاظ، غیرت مندی۔

شهن: الشاهين جمع شواهِين و شياهين (ح): شاہین (پرندہ)، ترازو کا عمود (ڈنڈی) (فارسی)۔

شها: ۱۔ شَهَا ـ و شَهِيَ يَشْهَى شَهْوَةً و اشتهى الشيءَ: کسی چیز کو پسند کرنا، بہت چاہنا۔ شَهُوَ ـ الطعامُ: کھانے کا لذیذ ہونا۔ شَهَّى الرجُلَ: کو خواہش پر اکسانا۔ ـــ عليه كذا: کو کسی چیز کی تجویز

پیش کرنا۔ سے تحکمانہ انداز سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ کہتے ہیں: هذا الشيء یُشْهِي الطعامَ: یہ چیز کھانے کی اشتہا پیدا کرتی ہے۔ اَشْهَی ہٗ: کو اس کی پسندیدہ چیز دینا۔ تَشَهَّی الشيءَ: کو پسند کرنا، چاہنا۔ تَشَهَّی علیه کذا: سے کی بار بار خواہش پیش کرنا۔ الشَهْوة (مص) جمع شَهَوات و شُهًی: خواہش (طب) بھوک، اشتہاء۔ الشَهّاء: بہت خواہش کرنے والا۔ الشَهِيّ: خواہشمند، چاہنے والا ـــــ و المُشْتَهَی: مرغوب، لذیذ۔ کہتے ہیں شيءٌ شَهِيٌّ: لذیذ چیز۔ الشَهوان م شَهْوی جمع شَهاوَی و الشَهْوانی: خواہشمند۔ الشَاهِیَة: خواہش۔

۲۔ شَاهَی ہٗ: سے مشابہت رکھنا۔

۳۔ أَشْهَی ہٗ: کو نظر لگانا۔ شاهي البَصَر: تیز نظر۔

○ شَهَا ـ و شَهِيَ یَشْهَی شَهْوَةً ہٗ: کی خواہش کرنا، کا خواہش مند ہونا، کا لالچ کرنا، کی طمع کرنا، کا آرزومند ہونا، متمنی ہونا۔ شَهَّی ہٗ: کو لالچی بنانا، حریص بنانا، للچانا، ورغلانا، کسی میں لالچ ابھارنا، خواہش یا اشتہاء جگانا (ہ ک)۔ شَهَّی: کھانے کا بھوک کو تیز کرنا، اشتہاء انگیز ہونا۔ تَشَهَّی و اشْتَهَی ہٗ: کا لالچی ہونا، حریص ہونا، آرزومند ہونا، متمنی ہونا، کی خواہش کرنا، کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، کی اشتہاء محسوس کرنا۔ شيءٌ لا یُشْتَهَی: ناپسندیدہ چیز۔ شَهْوَة: لالچ، طمع، حرص، آرزو، خواہش، سرگرم خواہش، بڑی خواہش، سخت آرزو، تمنا، شوق، عشق، جنسی خواہش، خواہش نفس، شہوت، نفسانی خواہش، نفسانیت، بھوک۔ شَهْوِي: بندۂ نفس، شہوت پرست، حسیاتی، حسی، حواسی، آزادانہ، کسی پابندی کے بغیر۔ شَهْوان م شَهْوَی جمع شَهاوَی: لالچی، طامع، حریص، عیاش، اوباش، شہوت پرست، نفس پرست، شہوانی، آوارہ، بدچلن، بدکار۔ شهوانی بمعنی شهوان۔ شَهِيّ: دلکش، خوشگوار، مرغوب، اشتہاء انگیز، لذیذ، پرکشش، رغبت دلانے والا۔ شهیة: اشتہاء، بھوک۔ فاتح الشهیة یا ما یفتح الشهیة: اشتہاء انگیز، بھوک کا محرک۔ قِلّة الشهیّة للطعام: بھوک کا فقدان۔ مُشَهٍّ: اشتہاء انگیز۔ مُشَهِّیات: اشتہاء انگیز مشروبات وغیرہ، اچار، چٹنیاں وغیرہ۔ مُشْتَهًی: مرغوب، خوش گوار۔ مُشْتَهَیات: مرغوبات۔

شاب: ۱۔ شَابَ ـ شَوْبًا و شِیَابًا الشيءَ: کو ملانا۔ اِنْشَابَ انْشِیابًا و اشتاب اشْتِیابًا: ملنا، مخلوط ہونا۔ الشَوْب (مص): وہ چیز جسے دوسری میں ملایا گیا ہو۔ الشَوْبة: اسم مرۃ۔ الشِیاب (مص): ملاوٹ۔ المَشُوب و المَشِیب: ملا ہوا، مخلوط۔ المُشاوِب جمع مَشاوِب: بوتل کا رپر۔

۲۔ شَابَ ـ شَوْبًا و شِیَابًا الرجُلَ: سے خیانت کرنا، کو دھوکا دینا۔ الشَوْبَة: دھوکا۔ الشَائِبَة: شائب کا مؤنث اور شوائب کا واحد اور معنی عیوب، خطائیں، غلطیاں، قصور، صدمات، ہول۔

۳۔ شَابَ ـ شَوْبًا و شِیَابًا و شَوَّبَ تَشْوِیبًا عنه: کو ہلکے سے ہٹانا۔

۴۔ شُوِّبَ فلانٌ: کو گرمی لگنا۔ صفت مُشَوَّب م مُشَوَّبة: (عام بول چال)۔ الشَوْب: گرمی (سریانی عام بول چال)۔

۵۔ الشَوْب: گندھے ہوئے آٹے کا پیڑا۔ شهد لیلة الشَیْباء: مہینہ کی آخری رات۔

○ شَابَ ـ شَوْبًا و شِیابا ہ ب: کو سے ملانا ـــــ ہ: میں ملاوٹ کرنا، آمیزش کرنا، کھوٹ ڈالنا، کو خراب کرنا، بے اثر کرنا، آلودہ کرنا، ناپاک کرنا، نجس کرنا، بگاڑنا، داغدار کرنا، پر دھبہ لگانا۔ لاتشوبه شائبة: بے قصور، بے گناہ، بے عیب، بے داغ۔ شَوْب: مرکب، آمیزہ، داغ دار کرنا، دھبا لگانا، گدلا کرنا، میلا کرنا؛ نقصان، کمزوری، داغ، دھبہ، خرابی، عیب، نقص، گرم ہوا۔ شائبة جمع شوائب: نجاست غلاظت، کیچڑ، داغ، دھبا، خرابی، عیب، نقص، خطا، غلطی، شک وشبہ، بدگمانی، شک وشبہ کرنے کی وجہ، مشتبہ حقیقت۔ مَشُوب: ملاوٹ شدہ، ملایا ہوا، آمیزش کیا ہوا، کھوٹ شامل کیا ہوا۔ مَشُوب بالهموم: پریشانیوں میں مبتلا۔

شوح: اشْوَحَ الشيءَ: کو نہ پہچاننا، کا انکار کرنا۔ الشَوْحَة (ح): چیل۔

۲۔ الشوحط: جس کا واحد الشَوْحَطَة ہے): وہ درخت جس سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔

○ شُوبَق جمع شوابِق و شوبك جمع شوابك: بیلن (rollingpin)۔ شَوَّحَ ہ: کو کباب کرنا، بھوننا۔ شُوح: (اسم جنس واحد شُوحَة) صنوبر، شمشاد۔ شُوحَة: چیل۔

شوذ: اشْوَذَّت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے لئے جھکنا ـــــ السحابُ الشمسَ: بادل کا سورج پر چھا کر گھیر لینا ـــــ ہٗ: کسی کو عمامہ باندھنا۔ تَشَوَّذَ و اشتاذ: عمامہ باندھنا، پگڑی پہننا۔ المِشْوَذ و المِشْواذ جمع مَشاوِذ و مَشاوِیذ: عمامہ، پگڑی۔

۲۔ الاشاوذ: ملوک۔ کہتے ہیں هو خیرُ الاشاوِذ یعنی وہ خیر الخلق ہے۔ المِشْوَذ و المِشْوَاذ جمع مَشاوِذ و مَشاوِیذ: بادشاہ، سردار۔

شار: ۱۔ شَارَ ـ شَوْرًا و شِوارًا الدابةَ: جانور کو سدھانا، جانور پر آزمائش کے لئے سوار ہونا، جانور کو خریداروں کو دکھاتے ہوئے۔ اس پر سوار ہو کر دکھانا۔ شَوَّرَ الدابةَ: بمعنی شارَ الدابة۔ أشارَ الدابة: بمعنی شارَ الدابة۔ اسْتَشارَ: عمدہ لباس پہننا۔ الشارة و الشُورة و الشَوار و الشِوار و الشِیار: حسن و خوبصورتی، ہیئت، لباس، زینت، گھر کا عمدہ سامان، منظر، تجربہ سے حاصل ہونے والی واقفیت۔ الشَوار: بمعنی شُوار۔ ریحٌ شَوار: نرم ہوا۔ الشَوْرة: بمعنی الشارة: شار کا اسم مرۃ۔ الشَیِّر جمع شُوراء: خوبصورت، حسین۔ المَشْوَر (مفع): آراستہ، مزین۔ المِشْوار جمع مَشاوِیر: تجربہ سے حاصل شدہ واقفیت، منظر، جانور دکھانے کی جگہ۔

۲۔ شَارَ ـ شَوْرًا و شِیارًا و شِیارةً و مَشارًا و مَشارةً العسلَ: شہد چھتے سے نکالنا، چھتے سے نکالے ہوئے شہد کو مشور کہا جاتا ہے۔ اشارَ العسلَ: چھتے سے شہد نکالنا ـــــ فلانًا عَسَلًا: کسی کی شہد چھتے سے نکالنے میں مدد کرنا۔ اِشْتارَ اشتیارًا العسلَ: شہد حاصل کرنا۔ استشار العسلَ: شہد حاصل کرنا۔ الشَوْر (مص): چھتے سے نکالا ہوا شہد۔ الشُورة: شہد کی مکھیوں کا چھتا۔ المَشار: شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔ المِشْوَر جمع مَشاوِر: وہ چیز جس سے شہد نکالا جاتا ہے۔ المِشْوار جمع مَشاوِیر: شہد نکالنے کا آلہ۔ المَشْوَارة: شہد کی جگہ۔

۳۔ شَارَ ـ شَوْرًا و شِوارًا ت الابلُ: اونٹوں کا موٹا اور خوبصورت ہو جانا۔ اشتارت الابلُ: اونٹوں کا کسی قدر موٹا ہو جانا۔ اِستشارت الابلُ: اونٹوں کا موٹا اور خوبصورت ہو جانا۔ الشِیار: کہتے ہیں خیلٌ شِیار: موٹے خوبصورت گھوڑے۔ المِشْوار: کہتے ہیں اخذت الخیلُ مِشْوارَها: گھوڑے موٹے اور خوبصورت ہو گئے۔

۴۔ شَوَّرَ الیه: کو اشارہ کرنا۔ اشارَ الیه و اشارَ بیده: کو اشارہ کرنا، کو ہاتھ سے اشارہ کرنا ـــــ به: کو واقف کرانا ـــــ علیه: کو حکم کرنا، نصیحت کرنا اور ٹھیک راہ بتانا۔ شاوَرَہٗ فی الامر: سے کسی معاملہ پر مشورہ طلب کرنا۔ تَشاوَرَ و اِشْتَوَرَ القومُ: آپس میں مشورہ کرنا، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا۔ اِسْتَشارَ الامرُ: واضح ہونا، روشن ہونا ـــــ ہٗ: سے مشورہ طلب

کرنا۔الإشارة (ع ج) علامت جیسے جمع کی علامت
+ اور تفریق کی علامت۔شارات الرتَب: نشان
ہائے امتیاز جو چھوٹی ڈھالوں یا شرفاء کے محلوں کی
دیواروں پر بنائے جاتے تھے۔الشور فی اصطلاح
العامة: مشورہ۔کہتے ہیں: شار علیه بأن یفعل
کذا یعنی اس نے اسے ایسا کرنے کا مشورہ دیا۔الشُوریٰ
تُشَاوُر یا اشار علیه کا اسم۔مشہور قول ہے کہ:
ترك عُمَرُ الخلافة شُوریٰ یعنی حضرت عمرؓ نے
خلافت اس حالت میں چھوڑی کہ اس میں باہم مشورہ
کیا جاتا تھا۔مجلس الشوری: مشاورتی کونسل۔
الشِیر جمع شُورَاء: جس سے مشورہ کیا جائے،
وزیر۔المَشُورة و المَشْورة جمع مَشورات:
أشار علیه کا اسم: مشورہ، نصیحت۔المُشِیر
(فا) فی اصطلاح أرباب السیاسة: وزیر کے
اوپر درجہ پر فائز شخص یعنی مشیر، صلاح کار یا کونسلر
advisor, counsellor اور consultant مشیر
خصوصی۔۱۹۳۳ء میں عراق نے مشیر کو فیلڈ مارشل کے
معنی میں استعمال کیا۔۱۹۳۹ء میں فلیٹ ایڈمرل
fleet admiral کے معنی میں مستعمل ہوا۔
المُشِیریَّة: کونسلر یا ایڈوائزر کا رتبہ۔المُشِیرة:
انگشت شہادت (انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی)۔
۵۔شَوَّر بہ: کو شرمندہ کرنا۔تَشَوَّر: شرمندہ ہونا۔
الشُورَة: شرمندگی، خجالت۔
۶۔شَوَّر النارَ و بالنار: آگ کو شعلہ زن کرنا۔أشار
النارَ و بالنار: آگ کو شعلہ زن کرنا۔أشْوَرَ
إشوارًا النارَ و بالنار: آگ کو شعلہ زن کرنا۔
۷۔الشَوار عند العامة: ترائی کی طرف کسی جگہ کا
کنارا۔اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں: نَشَوَّر الحمارُ:
یعنی گدھا ترائی کی جگہ تک جا پہنچا (سریانی)۔
الشُورة عند العامة: درختوں کی قطار، زمین کا لمبا اور
تنگ قطعہ یا پٹی۔المَشَارة جمع مشاور و
مَشَائر: قابل کاشت قطعہ زمین۔المِشوار جمع
مَشَاوِير: دھنئے کی کمان کی تانت، پیدل چلنے یا
سواری کی ایک دوڑ (عام بول چال)، سندیسے کا سر،
چکر۔
۸۔الشَورَبة (ط): شوربا (فارسی)۔
○ شَوَّر إلی: کو اشارہ دینا، اشارہ کرنا (انگلی سے) کو
سگنل کرنا، اشارات سے اطلاع دینا، کو آنکھ سے اشارہ
کرنا، کو واضح کرنا، کی طرف رخ کرنا۔شاوَرَة: کا
مشورہ طلب کرنا، سے مشورہ کرنا۔تشاوَر نفسه
اپنے آپ سے مشورہ کرنا، سوچنا، خیال آنا۔أشار

إلی/ل: کو اشارہ کرنا، سگنل کرنا۔ـــ إلی/ل ب:
کو اشارہ سے کچھ کرنے کو کہنا۔اشار إلی: سے کہنا، کو
مدعو کرنا، پرزور دینا۔ـــ إلی: کا اشارہ کرنا، تلمیح کرنا،
کنایہ کرنا، سے اشارۃً کہنا۔ـــ إلی/علی: واضح
کرنا، ظاہر کرنا بتانا۔ـــ إلی علی: کی توجہ کسی بات
پر مبذول کرنا۔ـــ علی ب: کو کا مشورہ دینا۔ـــ
علی أن: کو کچھ کرنے کا مشورہ دینا۔ـــ علی ب:
کو کی تجویز دینا۔ـــ علی ان: کو کچھ کرنے کی تجویز
دی۔ـــ علی ب/أن: کو کچھ کرنے کا حکم دینا۔ـــ
ب: کچھ بیان کرنا، بتانا۔مایُشار الیه بالبنان:
بہت ہی غیر معمولی (بات وغیرہ)، بہت نمایاں (چیز،
مسئلہ وغیرہ)۔تشاوَر مع فی: سے کے بارے میں
مشورہ کرنا۔استشاره: سے مشورہ طلب کرنا، سے
مشورہ کرنا۔شارة جمع شارات: علامت، ٹوکن،
امتیازی نشان، بیج (badge)، وضع قطع، بھیس، خارجی
مظہر۔شارة الصلیب: صلیب کی علامت۔
إستِشاری: مشاورتی۔مُشاوِر: مشیر، صلاح کار
کونسلر counsellor، مشیر خاص consultant۔
مُشِیر إلی: کی علامت، کی دلیل۔مُشِیر: مشیر،
صلاح کار، کونسلر counsellor، مشیر خاص، فیلڈ
مارشل، فلیٹ ایڈمرل (fleet admiral)۔المُشار
الیه: مذکورہ بالا، مذکورہ۔مُستشار: صلاح کار،
مشیر خاص، مجلس قانون ساز کا رکن، رکن مقننہ، رکن
شوریٰ، کونسلر (counsellor)، چانسلر
(chancellor)۔مستشارُ السِفارة: سفارت
خانہ کا مشیر۔مُستشار المُفوَّضِیَّة: چھوٹے
درجے کے سفارت خانہ کا مشیر counsellor of
legation۔دار المُستشاریَّة: چانسلر کا دفتر،
دیوان وزارت، سفارت خانے کا دفتر۔
○ شورت: (انگریزی) مختصر فیچر (فلموں میں)
شوز: شِیزَ شَوزًا بہ (مجھول): پر فریفتہ ہونا۔
الأشوَز: متکبر، مغرور۔
شاس: ا۔شاسَ - شَوِسَ - شَوَسًا: حقارت آمیز
نظر سے دیکھنا، تکبر یا غصہ کی وجہ سے کنکھیوں سے
دیکھنا، نیم وا آنکھوں سے دیکھنا۔تشاوس تَشاوُسًا:
تکبر یا غصہ کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھنا، نیم وا
آنکھوں سے دیکھنا، غرور اور نخوت کا اظہار کرنا۔
الأشوَس: تکبر سے سر اونچا کرنے والا۔الشُوس:
لمبے آدمی۔
۲۔شاسَ - وشَوِسَ - شَوَسًا: لڑائی میں بہت دلیر
اور منچلا ہونا۔صفت أشْوَس م شَوساء جمع

شُوس کہتے ہیں: رُمِیَ فلانٌ بخطوب شُوس:
فلاں شخص کو سنگین صورت حالات میں پھینک دیا
گیا۔تشاوس تشاوُسًا: حقارت آمیز نظر سے دیکھنا
○ أشوس م شوساء جمع شُوس: مغرور، متکبر،
بہادر، دلیر، نڈر، بے باک، خطرات میں کود جانے
والا۔شُوس الحرب: جنگی ہیرو (جمع)
شوش: ا۔شَوَّش الأمر: کو خلط ملط کرنا، گڈ مڈ کرنا،
کا ستیا ناس کرنا، کو درہم برہم کرنا، پریشان کرنا۔
تَشَوَّش علیه الامرُ: پر معاملہ گڑبڑ ہونا۔تَشاوَس
القومُ: قوم کا بے ترتیب ہونا۔الشَواش: اختلاف،
اضطراب۔عبارةٌ مُشوَّشة: ترکیب یا معنی میں ٹھیک
نہ ہونے والی عبارت۔
۲۔الشَّاش: ململ (کپڑے کا نام)۔ریشم کی چادر جس
سے پگڑی باندھی جاتی ہے (عبرانی)۔الشاشةُ البیضاءُ
پردۂ سیمی (سینما)۔الشاشِیَة: مراکشی فوجیوں کی
سرخ ٹوپی۔الشاویش (ا ع): سارجنٹ (sergeant)
○ شَوَّش ہ: کو گڈ مڈ کرنا، خلط ملط کرنا، درہم برہم کرنا،
حیران و پریشان کرنا۔ـــ ہ/علی: میں خلل ڈالنا۔ـــ
ہ: کو پیچیدہ کرنا، الجھانا، میں الجھنیں پیدا کرنا۔
تَشَوَّش: پریشان ہونا، گھبرایا ہوا ہونا، بوکھلانا، گڈمڈ
ہونا، بل جل جانا، پاگل یا دیوانہ ہونا، پریشان ہونا، بیمار
ہونا، طبیعت ناساز ہونا۔شاش: ململ، سفید کپڑا۔
شاشَة: سفید کپڑا۔الشاشة و الشاشة البیضاء:
(سینما) سکرین۔شاشِیَة جمع شَواشِی: سر پر
پہننے کی چیز، ٹوپی۔شُوشَة: بالوں کا گچھا، بالوں کی
لٹ، زلف، گیسو، کلغی۔شَواش: گڑبڑ، ابتری، بے
ترتیبی، پریشانی، گھبراہٹ، بوکھلاہٹ، دماغی خلل،
ہلچل۔شَواشِیّ جمع شَواشِیَة: ٹوپیاں بنانے
والا۔مُشَوَّش الفکر: بوکھلایا ہوا، حیران، پریشان،
چکرایا ہوا۔
شاص: ا۔شاصَ - شَوْصًا و شَوَصًا: پھڑکنا۔ـــ
الجنینُ: بچہ کا ماں کے پیٹ میں لاتیں مارنا۔ـــ بہ
العِرقُ: رگ کا حرکت کرنا، مضطرب ہونا۔ـــ فلانٌ
بفلانٍ: کے درمیان دشمنی ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ـــ
شَوَّصَهُ: کو جگہ سے ہلانا۔شَوِصَ - شَوَصًا
عینُهُ: کے پپوٹوں کا بہت پھڑکنا۔صفت أشْوَص:
جس کے پپوٹے بہت پھڑکتے ہوں۔ایسی آنکھ کو
شَوصاء کہتے ہیں جمع شُوص ہے۔الشَوصة: رگ کی
پھڑکن۔الشِیاص: بدخلقی، بدمزاجی۔
۲۔شاصَ - شَوْصًا و شَوَصًا الرجلُ: کی داڑھ
یا پیٹ میں درد ہونا۔ـــ شَوَّصَهُ: کو ہاتھ سے ملنا، کو

دھونا۔ فاہٗ بالسِواك: مسواک سے منہ صاف کرنا۔
شَوَّصَ تَشْوِيصًا و أَشاصَ إِشاصَةً الرجلُ: مسواک کرنا۔شَوْصُ السِواك: مسواک کا گندا پانی۔الشَوْصَة (طب): پیٹ میں ریاحی درد۔

۳۔ شَوِصَ - شَوَصًا عينُه: آنکھ کا اتنا موٹا ہونا کہ پپوٹے آپس میں نہ مل سکیں۔الشَوْصَة (طب): پہلو کا ورم۔

شاط: ۱۔ شاطَ - شَوْطًا به الغضبُ: غصہ بھڑکنا، اشتعال میں آنا۔۔۔ شَوِيطًا و شَوْشَطَ الطعامُ: ہانڈی کا لگ جانا (ہنڈیا کے پیندے میں پکائی جانے والی چیز کا آگ کی تیزی یا زیادہ عرصہ پکنے سے جل جانا) صفت: شائِطٌ و مُشَوْشِطٌ (عام بول چال)۔شَوَّطَ القِدرَ: ہانڈی کو جوش دینا۔ ۔۔۔ اللحمَ: گوشت پکانا۔ ۔۔۔ الصقيعُ النباتَ: سردی کا پودے کو جھلس دینا۔

۲۔شَوَّطَ: کا سفر لمبا ہونا۔تَشَوَّطَ الفرسَ: گھوڑے کو ہانک ہانک کر تھکا دینا۔الشَوْط جمع أَشْواط: منزل مقصود، منزل مقصود تک ایک دوڑ۔ کہتے ہیں: جرى الفرسُ شوطًا: گھوڑے نے ایک دوڑ لگائی۔

○ شَوْط جمع أشواط: گول (منزل مقصود) تک دوڑ، حالت دور (phase)، کام کا چکر (round)، کھیل جس میں بہت سے کھلاڑی شریک ہوتے ہیں۔ ہاف (half)، میدان (دوڑ کا)، گول (کھیل کا) مقصد، مدعا، نشانہ، ہدف۔قطعَ شوطًا كبيرًا (بعيدًا) في التقدم (الرقي) اور قطع في ميدان الرقي أشواطًا: خوب ترقی کرنا، کافی آگے بڑھ جانا، بڑی تیز رفتاری سے ترقی کرنا۔قطع أشواطًا شاسعة: خوب ترقی کرنا، کافی آگے بڑھ جانا، بڑی تیز رفتاری سے ترقی کرنا۔يَفُوقُهُ أشواطًا: سے کہیں آگے بڑھ جانا، سے بازی لیجانا، پر بہت سبقت لے جانا۔

شاظ: ۱۔ شاظَ - شَوْظًا بفلانٍ: کو گالی دینا۔ تَشاوَظَ القومُ: ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔الشُواظ والشِواظ: چیخ پکار، گالی گلوچ۔

۲۔ شاظَ - شوظًا به الغضبُ: غصہ بھڑکنا، مشتعل ہونا۔الشُواظ و الشِواظ: دھوئیں سے خالی شعلہ آگ یا سورج کی گرمی، پیاس کی شدت۔

○ شُواظ: شعلہ، آگ، جوش، ولولہ، تپش، شوق، شدت کی گرمی، گرمجوشی، سرگرمی، لگن، دھن، جذبہ، طیش، عشق، بےحد شوق۔

شوع: شَوِعَ يَشْوَعُ شَوَعًا الرأسُ: سر کے بالوں کا پراگندہ اور غبار آلود ہونا۔۔۔ الفرسُ: گھوڑے کے ایک رخسار کا سفید ہونا صفت أَشْوَع م شوعاء جمع شُوع۔ شَوَّعَ تَشْوِيعًا القومَ: قوم کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔الشُوْع جمع شِياع (واحد شُوعَة) (ن): بان کا درخت۔المِشْوَاع: تنور میں آگ ہلانے کی سیخ۔ اصل میں مِشْياع ہے۔

شاف: ۱۔ شافَ - شَوْفًا هُ: کو صیقل کرنا، جلا دینا۔ ۔۔۔ الجملَ بالقطران: اونٹ پر کولتار ملنا۔ شِيفَت الجارية: لڑکی کا بناؤ سنگھار کرنا۔شَوَّفَ الجاريةَ: لڑکی کا سنگھار کرنا، میک اپ کرنا۔تَشَوَّفَ تَشَوُّفًا: مزین ہونا، آراستہ ہونا۔المِشْوَف (مص): ہینگا، زمین کو برابر کرنے کا آلہ۔المَشُوف (مفع): مزین، آراستہ۔ ۔۔۔ من الجمال: کولتار ملا ہوا اونٹ۔

۲۔ شافَ - شَوْفًا هُ: کو دیکھنا (عام بول چال)۔ شَوَّفَهُ الشيءَ: کو کوئی چیز دکھانا (عام بول چال)۔أَشافَ إِشافَةً عليه: کو اوپر سے جھانکنا۔ ۔۔۔ الشيءُ: چیز کا بلند ہونا۔تَشَوَّفَ تَشَوُّفًا من السطحِ: اوپر سے دیکھنا، جھانکنا۔ ۔۔۔ إلى الشيءِ: کسی چیز کی طرف جھانکنا۔ ۔۔۔ الشيءُ: چیز کا بلند ہونا۔ إِشْتافَ اشْتِيافًا اليه: کو گردن لمبی کر کے دیکھنا۔ ۔۔۔ البرقَ: بجلی کو بامید بارش دیکھنا۔الشَيِّفَةُ و الشَيِّفان: دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے والا ہراول دستہ۔الشَوَّاف من الرجال: تیز نظر آدمی۔
الشِياف: آنکھوں کی دوا۔

۳۔أشافَ إِشافَةً منه: سے ڈرنا، خوف کھانا۔

۴۔ إِشْتافَ و اسْتَشافَ الجرحُ: زخم کا سخت ہونا۔

○ شَوَّفَ هُ: کو رگڑ کر صاف کرنا، چمکانا۔۔۔ ها: (عورت) کو آراستہ کرنا، سجانا، کی آرائش کرنا، کا سنگار کرنا۔ تَشَوَّفَ إلى: کی امید کرنا، کی توقع کرنا، پیش بندی کرنا۔شُوف: سہاگہ، میڑا، ہینگا۔الشُوف: لبنان کے ایک انتظامی ضلع کا نام۔شُوفَة: منظر، نظارہ۔شُوفان: جی (oats)۔

شاق: ۱۔ شاقني - شَوْقًا و تَشْواقًا الحبُّ اليه: مجھے کا شوق دلانا۔ صفت مفعولی: مَشُوقٌ صفت فاعلی شائِق: شَوَّقَهُ إليه: کو کے شوق پر اکسانا، برانگیختہ کرنا۔أشاق إشاقةً هُ: کو خواہش ابھارنے والا پانا۔تَشَوَّقَ الشيءَ و اليه: کا بہت شوق ظاہر کرنا۔اِشْتاقَهُ و اِشْتاقَ اليه: کی بہت خواہش کرنا، کا مشتاق ہونا۔الشوق (مص) جمع أَشْواق: سخت خواہش و بڑی آرزو۔الشَوِق: شائق کی جمع عُشّاق۔ الشَيِّق: مشتاق۔ کہتے ہیں قلبٌ شَيِّقٌ: مشتاق دل۔

۲۔ شاقَ - شَوْقًا و تَشْواقًا القربةَ: مشک کو دیوار کے ساتھ کھڑی کرنا صفت مفعولی مَشُوقَةٌ۔ الطُنُبَ إلى الوتد: خیمہ کی رسی کو کھونٹے سے باندھنا۔ الشِياق و الشِيق: وہ چیز جس سے کسی چیز کو کھینچ کر دوسری چیز سے باندھیں جیسے خیمہ کی رسیاں۔

۳۔الرجلُ الأَشْوَق جمع شُوق: بلند قامت آدمی۔ قومٌ شُوقٌ: لمبے تڑنگے لوگ۔

○ شاقَ - شوقًا ہ: کو پسند آنا، بہت اچھا لگنا، کو خوش کرنا، کو مسرور، شاد یا محظوظ کرنا، میں بڑی خواہش، سخت آرزو، طلب، حسرت، تمنا برانگیختہ کرنا، ابھارنا، کو بڑی خواہش، سخت آرزو، طلب، تمنا سے بھر دینا۔ شَوَّقَ ہ: کو بڑی خواہش سخت آرزو، طلب تمنا حسرت سے بھر دینا، میں بڑی خواہش سخت آرزو، طلب، تمنا حسرت ابھارنا۔تَشَوَّقَ و اشتاق ہ/ ہ/إلى: کا آرزو مند ہونا، متمنی ہونا، مشتاق ہونا، کو کی آرزو ہونا، کی آرزو میں مرنا۔ ۔۔۔ ہ/الی: کا آرزو مند ہونا، کا لالچ یا حرص یا طمع کرنا، کے لئے کی سرگرم خواہش یا تمنا ہونا، چاہت ہونا۔شائِق: بڑی خواہش برانگیختہ کرنے والا، خواہش ابھارنے والا، خواہش کا محرک یا اس میں ہیجان پیدا کرنے والا: چمکیلا، درخشاں، تابندہ، شاندار، عظیم الشان، خوبصورت۔مشتاق: مشتاق، خواہش مند، خواہاں، خواستگار، شائق، طالب۔ مُشَوِّق: خواہش، حسرت تمنا آرزو ابھارنے والا، سنسنی خیز، ہیجان خیز، برانگیختہ کرنیوالا، مشتعل کرنے والا، دل موہ لینے والا، گرویدہ کرنے والا، جاذب نظر، دل کش، دل آویز، پرجوش، خیال آفریں، ہیجان خیز، پرجوش، دل کش، دلچسپ۔مُشَوَّق الى: کی سخت خواہش یا آرزو سے مملو، کا خواہاں، خواستگار، شائق، طالب، کالالچی، حریص۔

شاك: ۱۔ شاكَ - شَوْكًا هُ: کو کانٹا چبھونا۔۔۔ لَحْيا البعيرِ: اونٹ کا لمبے دانتوں والا ہونا۔ ۔۔۔ ثديُ الجارية: لڑکی کے پستان نمودار ہونا، نکلنے لگنا۔ ۔۔۔ هُ الشوكةُ: کو کانٹا چبھنا۔ ۔۔۔ - شاكةً و شِيكةً: کانٹوں میں جا پڑنا۔ ۔۔۔ الشوكَ: کانٹوں میں جا پڑنا۔ ۔۔۔ هُ بالشوكة: کو کانٹا چبھونا۔شِيك: جسکو کانٹا چبھا ہو۔شَوَّكَ الشجرُ: درخت کا کانٹے دار ہونا، درخت پر کانٹے نکلنا۔۔۔ الحائطَ: دیوار پر کانٹے رکھنا۔۔۔ الفرخُ: چوزے کا پَر نکالنا۔ ۔۔۔ شاربُ الغلام: لڑکے کی مونچھوں کا سخت ہونا۔

الرأسَ بعد الحلق: سر منڈانے کے بعد پھر نئے بال اُگنا۔أشَاكَ هُ: کو کانٹا چبھونا۔أشْوَكَ المكانُ: جگہ کا کانٹوں والی ہونا۔ــــ ت الشجرةُ: درخت کا خاردار یا بہت کانٹوں والا ہونا صفت مُشْوِكة۔ الشَوْكُ جمع أشْوَاك واحد شَوْكَة (ن): کانٹا۔شَوْكُ الدُرَّاج (ن): ایک خاردار پودا، جسے کچل کر جانوروں کو بطور چارا دیا جاتا ہے۔الشوكة: شوک کا واحد، ایک کانٹا، بچھو کا ڈنک (ز) زراعت کا ایک اوزار (جیسی ڈنگی، دوشاخہ) چھری کانٹا (کھانے میں)، اسے فرتیکہ بھی کہتے ہیں اور یہ لفظ اطالوی زبان کا ہے۔ريحُ الشَوْكَة (طب): ہاتھ کے انگوٹھے میں نکلنے والی پھنسی۔ عام لوگ اسے دوحاس کہتے ہیں۔شوكةُ الحائِك: جولاہے کا تانا بانا برابر کرنے کا آلہ۔الشائك جمع شَاكَة و الشَوِك: کانٹے دار، خاردار۔ارضٌ او شجرةٌ شَاكَةٌ: بہت کانٹوں والی زمین یا درخت۔

۲۔ شَاكَ ۔ شَوْكًا: کی شوکت اور تیزی ظاہر ہونا۔ شَائِكُ و شوِكُ السلاح: اسلحہ میں شوکت اور تیزی کا مالک۔ اسے شاكّ السلاح و شاكُ السلاح اور شاكِي السلاح بھی کہتے ہیں۔ الشوكة: طاقت اور جنگ، ہتھیار اور اس کی تیزی، دشمن کو ایذا دہی۔ کہتے ہیں لاتشوكك منی شوكةٌ: تم کو میری طرف سے کوئی ایذا نہیں پہنچے گی۔الأَشْوَكُ م شَوْكَاء من الثياب و نحوها: کھردرا کپڑا وغیرہ۔

۳۔شِيكَ الجسدُ: جسم پر سرخ پھنسیاں ہونا صفت: مَشُوك۔ الشَوْكَة: سرخ پھنسی۔ المباركةُ و الشوكة اليهودية و الشوكة البيضاء: جڑی بوٹیوں کے نام ہیں جو علاج میں استعمال کی جاتی ہیں۔

۴۔الشوكران: ایک زہریلا پودا۔شیکران (poison hemlock)۔

○ شَاكَ ۔ شوكًا هُ/ب: کو کانٹا سوئی وغیرہ چبھونا، یا کانٹے سوئی وغیرہ سے تکلیف دینا۔شَوَّكَ: خاردار ہونا۔ــــ هُ: کو کانٹوں وغیرہ سے جڑنا بھرنا۔ــــ ه ب: کو کانٹا سوئی وغیرہ چبھونا، کو کانٹے سوئی وغیرہ سے تکلیف دینا۔على الشَوْكِ: خلجان میں، مخمصے میں۔شَوِك: خاردار۔شائِك: خاردار، نازک، زود حس، پیچیدہ، مشکل، تشویشناک۔سِلكٌ شَائِكٌ جمع اسلاك شائكة: خاردار تار۔

الشكولاته: چاکلیٹ۔(المنجد میں) الشُوكولاتا۔

شال: ا۔ شَالَ ۔ شَوْلاً و شَوَلانًا الذَنَبُ وغيرُهُ: دم وغیرہ کا بلند ہونا۔ــــ الشيءَ و بالشيءِ: کو اٹھانا، بلند کرنا۔ــــ الميزانُ: ترازو کے ایک پلڑے کا اٹھ جانا۔ــــ ت القِربة او الزِقُّ: بھرنے پر یا پھونکنے پر مشک کی ٹانگوں کا اٹھ جانا۔شاوَلَ الحجرَ: پتھر اٹھانا۔أشَالَ الشيءَ: کو بلند کرنا، اٹھانا۔ إشتَالَ اشتيالاً: بلند ہونا۔ إنشال انْشِيالاً: بلند ہونا۔استَشَالَ تِ الناقةُ ذَنَبَها: اونٹنی کا اپنی دم اٹھانا۔الشولَة: اسم مرۃ، ایک بار کا اٹھانا، بچھوی اٹھی ہوئی دم۔شَوْلَةُ و شَوَّالَةُ: بچھو کا اسم علم۔الشَال جمع شِيلان و شالات: بڑی چادر جو کندھوں پر ڈالتے ہیں۔الشالة: اس سے اخص ہے (فارسی)۔ الناقةُ الشائِل جمع شُوَّال و شوَّال و شُيَّل و شِيَّل: مستی کے وقت دم اٹھانے والی اونٹنی اور دودھ نہ دینے والی اونٹنی۔الشائِلة جمع شَوْل و أشْوَال و شَوائِل: شائل کا مونث۔شوّال جمع شَوَّالات و جمع شَوَاوِيل: قمری سال کا دسواں مہینہ جو رمضان اور ذی قعدہ کے درمیان آتا ہے۔اس کے ۲۹ دن ہوتے ہیں۔شوال۔المِشْوَال: (زور آزمائی کے لئے) اٹھایا جانے والا پتھر۔

۲۔شال ۔ شَلاً و شَوَلانًا ت نعامتُهُ: کسی کا ناراض ہو کر پر امن ہو جانا۔مرنا۔ــــ ت نعامةُ القوم: قوم کا اپنے مکانوں کو خالی کر جانا اور متفرق ہو جانا یا ان کا اتحاد ٹوٹ جانا اور ان کی عزت کا جاتا رہنا۔شَوَّلَ تَشْوِيلاً لبنُ الناقةِ: اونٹنی کا دودھ گھٹ جانا۔ــــ ت النوقُ: اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو جانا۔ــــ الماءُ: پانی کم ہو جانا۔ــــ ت المزادةُ: توشہ دان میں باقی ماندہ پانی کا کم ہو جانا۔ــــ في المزادة: توشہ دان میں تھوڑا سا پانی باقی رکھنا۔الشَوْل (مص) جمع أشْوَال: ہلکا، سبک، ڈول وغیرہ کا بچا ہوا پانی، تھوڑا سا پانی۔الشَوِل: کام اور خدمت میں چست۔الشَائِلَة من الإبل جمع شَوْل و أشوال و شَوَائِل: وہ اونٹنی جس کے حمل یا وضع حمل کو سات ماہ گزر گئے ہوں اور اس کا دودھ خشک ہو گیا ہو۔

۳۔شَاوَلَ هُ و به: کو ہٹانا۔ــــ و تشاولَ القومُ بالرماح: ایک دوسرے پر نیزوں سے حملہ کرنا۔اِشتال اشتيالاً له: کی مخالفت کرنا اور اس کو گالی دینا۔

۴۔الشَوْلَة من النساء: بیوقوف عورت۔الشَوَّالَة: چغل خور عورت۔الشِوَال (عند العامة): بالوں یا اون کا بڑا بورا۔(جوالق کی تحریف) المِشْوَل: چھوٹی درانتی۔

○ شَلَ ۔ شَوْلاً: اٹھنا، بلند ہونا۔ــــ ه/ب: کو اٹھانا، اونچا کرنا، کو لیجانا۔شالت نَعامتُه: وہ دور چلا گیا، روانہ ہوا، فوت ہو گیا، مر گیا۔شَوَّلَ: چھدرا ہو جانا، کمیاب ہونا، کم رہ جانا۔شَاوَلَ هُ: پر حملہ کرنا، حملہ آور ہونا۔أشْوَلَ هُ: کو اٹھانا، لیجانا۔شَوِل: تیز، چالاک، ہوشیار، مستعد، شاطر، چست، پھرتیلا (کام میں)۔ مشَال: اٹھا کر لیجانا، ڈھونا، بار برداری، حمالی، ڈھلوائی، خرچہ بار برداری، ترسیل، نقل و حمل۔ شُوَال جمع شِوَالات: (بڑا) بورا۔شال جمع شِيلان: شال (shawl)۔

شان: ا۔ شَانَ ۔ شَونًا الرؤوسَ: دماغ کے کیڑے نکالنے کیلئے سر کھولنا۔تَشَوَّنَ: کم عقل ہونا۔الشَوْنَةُ: بیوقوف عورت۔الشُونَة جمع شَوان: غلے کا گودام، سمندری جنگی جہاز۔الشَوَّان: غلہ جمع کرنے والا۔

○ شَوَّن ه: (کسی چیز خصوصاً غلہ کا) ذخیرہ کرنا، جمع کرنا۔ شُونَة جمع شُونات و شُوَن: گودام، غلہ کی کوٹھی، چھپر، باڑا، کوٹھا۔

۲۔الشُونيز (ن): دیکھو شنز، کلونجی۔

شاه: ا۔ شَاهَ ۔ شَوْهًا و شَوْهَةً الوجهُ: چہرہ کا قبیح ہونا۔شَوِهَ يَشْوَهُ شَوَهًا الوجهُ: چہرے کا بدصورت ہونا۔شَوَّهَ اللّٰهُ وجهَه: اللہ کا کسی کے چہرے کو بدشکل بنانا۔تَشَوَّهَ: بدشکل ہونا۔ــــ لِفُلان: اپنے آپ کو کسی کے لئے ناشناسا اور بدصورت بنانا۔ الشَوَه (مص): بدشکلی، خوبصورتی (ضد)۔الشُوهَة: بدصورتی۔الشَوْهاءُ: بدمزاج عورت، بدشکل عورت، خوبصورت عورت (ضد)۔المُشَوَّه: بدشکل، ناموافق اجزاء والا۔

۲۔ شَاهَ ۔ شَوْهًا و شوهَةً الرجُلَ: سے حسد کرنا، کو نظر لگانا۔ کہتے ہیں: شاهت نفسُه إلى كذا: کا لالچ کرنا، کی طمع کرنا، کی آرزو کرنا، تمنا کرنا۔ تَشَوَّهَ لِفلان: نظر لگانے کے لئے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔ کہتے ہیں: هو يتَشَوَّهُ اموال الناس ليصيبها بالعين: یعنی وہ نظر لگانے کے لئے لوگوں کے مالوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ نیز کہتے ہیں لا تُشَوِّهْ عليَّ: یعنی یہ نہ کہہ تو کتنا خوبصورت ہے تاکہ مجھے نظر لگائے۔الشَائِه (فا) جمع شُوَّه: حاسد، نظر لگانے والا، تیز نظر۔رجُلٌ شَاهُ البصر و شاهي البصر: تیز نظر آدمی۔الأشْوَه م شَوْهاء جمع شُوْه: جلد نظر بد لگانے والا۔الشَوْهَاء: منحوس عورت۔فرسٌ شوهاء: تیز نظر گھوڑا۔

۳۔شَاهَ ۔ شَوْهًا و شَوْهَةً الرجُلَ: کو خوفزدہ کرنا۔

۴۔شَوِهَ يَشْوَهُ شَوَهات العنقُ: گردن کا لمبا ہونا، چھوٹا

ہونا (ضد)۔الشَوَہ: گردن کی لمبائی اور بلندی، سر اٹھانا۔الأشوَہ م شَوھاء جمع شُوہٌ: دراز گردن والا، متکبر۔

۵۔تَشوَّہ الرجلُ شاۃً: بکری کو شکار کرنا۔الشاۃ (ح): غنم کا واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے آتا ہے۔ ج شاءٌ و شِیاہٌ و شِواہٌ و أشاوِہ و شِیَۃٌ و شِیَہٌ و شَوِیٌ۔ اور شاۃ کا اسم مُصغّر شُوَیَّۃ و شُوَیھَۃ جمع شُوَیھات۔ نسبت کے لئے کہا جاتا ہے: شاوِیّ: بکرا، بکری۔الشاھِی: بکریوں والا۔ ارضٌ مَشاھَۃٌ: بہت بکریوں والی زمین۔

۶۔الشُوھَۃ: دوری۔الشاہ: بادشاہ نسبت شاھی و شاھانی (فارسی) بادشاہ کا، بادشاہ کے متعلق۔ شاھانْ شاہ: شہنشاہ (فارسی)۔الشاہ بلّوط (ن): کستنہ کا درخت (فارسی)۔شاہُ بَندَر: تاجروں کا سردار، رئیس التجار (فارسی)۔الشاھترج (ن): ایک پودا جو باغوں اور راستوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس کے پتے اور بیج خارش اور کھجلی کے علاج کے کام آتے ہیں۔

○ شَوِہَ - شَوَھاً و شاہَ - شَوْھاً: بدشکل ہونا یا ہو جانا، بدنما ہونا، بدصورت ہونا یا ہو جانا، حلیہ بگڑنا۔شَوَّہَہٗ: کی شکل بگاڑنا، کا حلیہ بگاڑنا، کے ہاتھ پیر کاٹنا، کو بدنام کرنا، پر افتراء کرنا، بہتان باندھنا، کو گالیاں دینا۔ شَوَّہَ الاذاعۃَ: نشریہ جام کر دینا۔شَوَّہَ وجہَ الحقیقۃ: حقیقت کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا۔شَوَّہَ وجہَ وظیفتہ: اپنے پیشہ کی ذلت کا موجب ہونا۔ تَشَوَّہَ بمعنی شَوِہَ و شاہَ۔ شَوَہ: بدشکلی، خلقت میں خرابی و نقص، بدنمائی، بدصورتی، شکل بگاڑنا، بے راہ روی، کج روی۔الأشوَہ م شوھاء جمع شُوہ: بدشکل، بدصورت بگڑی ہوئی شکل والا الاخلقت میں خرابی والا، بدہیئت، کج رو، بے راہ رو۔ شانہ: بمعنی اَشوَہ۔ مُشوَّہ: بدشکل، بدصورت، بگڑی ہوئی شکل والا، ہاتھ پاؤں کٹا ہوا، بے راہرو، کج رو۔ مُشوَّہ الحرب: جنگی معذور (جو جنگ میں معذور ہو گیا ہو)، معذور، تجربہ کار۔تشویہ: ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، بدشکل بنا دینا، رسوائی، بدنامی، ہتک عزت، لنگڑا لولا کر دینا۔

شوی: ا۔شَوَی - شَیّاً اللحمَ: گوشت کو آگ پر بھوننا صفت مفعولی مَشْوِیّ۔ — الماءَ: پانی گرم کرنا۔شَوَّی القومَ: لوگوں کو بھنا ہوا گوشت کھلانا۔ أشْوَی القومَ: لوگوں کو بھنا ہوا گوشت کھلانا۔ — السَعَفُ: درخت خرما کی شاخ زرد ہو کر سوکھ جانا۔ اسی سے ہے ما أعیاہ و ما أشواہ: وہ کس قدر کمزور ہے۔ — الزرعُ: بھوننے کے لائق ہونا۔ اِشتوی اِشتِواءً: بھن جانا۔ — الرجلُ: بھونا ہوا گوشت وغیرہ لینا۔ اِنشَوَی اِنشِواءً: بھننا۔الشِواء والشُواء: بھنا ہوا گوشت وغیرہ۔ — والشِواءۃ والشُواءۃ و الشَواۃ: بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا۔ الشَوّاء: گوشت بھوننے والا۔الشَوِی: بھنا ہوا گوشت۔سَعَفۃٌ شاویۃٌ: درخت خرما کی سوکھی ہوئی شاخ۔المِشْواۃ جمع مَشاوٍ: گوشت بھوننے کا آلہ، گوشت بھوننے کی سیخ، کڑاہی۔

۲۔شَوَّی و أشْوَی الرجلَ: آدمی کے ہاتھوں، ٹانگوں اور پہلوؤں کو زخمی کرنا، جس سے موت واقع نہ ہو۔ — السھمُ: تیر کا نشانہ خطا کرنا۔الشَوَی: اعضاء جسمانی جن کا زخم مہلک نہ ہو، ہاتھ، ٹانگیں، پہلو، آسان کام۔ — و الشَواۃ: کھوپڑی اور اس کی کھال، کاسہ سر اور اس کی چمڑی۔

۳۔أشْوَی الرجلُ: گھٹیا مال خریدنا۔الشَوَی: گھٹیا مال۔الشُوابۃ و الشَوایۃ و الشِوایۃ و الشَوِیَّۃ من المال: ردّی مال۔

۴۔أشْوَی الرجلُ: رات کے کھانے سے کچھ چھوڑ دینا۔ الشُوایۃ و الشَوایۃ و الشِوایۃ و الشَوِیّۃ جمع شَوایا: ہلاک شدہ قوم یا مال کا بقیہ۔

۵۔الشَوایا (واحد شاوِیَۃ): دامن کوہ میں ہموار میدان

○ شَوَی - شَیّاً ہٗ: گوشت بھوننا، کباب کرنا۔شِواء وشُواء: بھنا ہوا، کباب کیا ہوا گوشت وغیرہ۔شَوِیّ: بھنا ہوا، کباب کیا ہوا۔شَواۃ جمع شَوًی: کھوپڑی کی کھال، چندیا۔شَوّایۃ: کباب، سیخ، کباب کا برتن۔مِشواۃ: سیخ، کباب بنانے کا برتن۔

شاء: ا۔شاءَ - شَیئاً و مَشِیئۃً و مَشاءۃً و مَشائِیَۃً ہٗ: کا ارادہ کرنا، کو چاہنا صفت فاعلی شاءٍ: صفت مفعولی: مَشِیءٌ۔ — اللہُ الشیءَ: اللہ کا کسی چیز کو مقدر کرنا۔ تعجب کے موقعے پر کہتے ہیں: ماشاءَ اللہ۔ الشِیئۃ: شاء کا اسم ہے۔ والمَشِیئۃ: ارادہ، چاہنا۔ کہا جاتا ہے کلُّ شیءٍ بمشیئۃ اللّٰہ: ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتی ہے۔

۲۔شَیّأہٗ علی الامر: کسی کو کسی کام پر اکسانا، ابھارنا۔ أشاءَ إشاءۃً ہٗ: کو مجبور کرنا۔

۳۔شَیّأَ اللہُ وجھَہٗ: اللہ کا کسی کو سیاہ رو کرنا۔المُشَیّأ: بدشکل، ناہموار جسم کی ساخت والا۔

۴۔تَشَیّأَ تَشَیُّؤاً: کا غصہ ٹھنڈا ہونا۔

۵۔الشیء جمع أشیاء و جمع الجمع أشاوَی و أشاواتٌ و أشاوات و أشایا تصغیر شُیَیٌّ و شِیَیءٌ: چیز، جو چیز جانی پہچانی جائے اور اس کی خبر دی جا سکے۔أشیاء: غیر منصرف ہے۔

○ شاءَ - مَشِیئۃً: چاہنا۔ ہٗ/أن: کی خواہش کرنا، خواہش کرنا کہ۔ان شاء اللہ: اگر اللہ نے چاہا، امید ہے کہ مجھے یا ہمیں ایسی امید ہے۔ماشاء اللّٰہُ: جو کچھ، جیسا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، حیرت انگیز! صحیح ہے۔خوب شاباش مرحبا۔ إلی ماشاء اللّٰہ: ہمیشہ ہمیشہ کے لئے۔لفَّقَ ماشاء لہ التلفیقُ: اس نے انتہائی شرمناک جھوٹ گھڑے۔شیء: چیز، کوئی چیز۔شیء من: کچھ، بہت۔شیء من النشاط: کچھ سرگرمی۔شیء من القلق: کچھ بے چینی، کچھ پریشانی۔بدون شیءٍ من الجھد: بغیر کسی مطلق کوشش کے۔ھذا شیءٌ و ذاک شیءٌ آخر: یہ اور وہ دونوں یکسر مختلف چیزیں یا باتیں یا معاملے ہیں۔فی الامر شیء: کوئی نہ کوئی بات ضرور غلط ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بات مزا کرکرا کرنے والی ہے۔ بعض الشیء: کسی قدر، ایک حد تک، کچھ۔فی شیءٍ اور بشیءٍ: (انکار پر مبنی جملوں میں) کسی طرح نہیں، کسی بات میں بھی نہیں، ہرگز نہیں، کسی صورت بھی نہیں، نہیں، قطعاً نہیں۔علی شیء کثیر من: بہت جیسے۔علی شیءٍ کثیر من البساطۃ: بہت سادہ۔الشیءُ الکثیر: سب سے زیادہ، اکثر۔ أشبَہُ شیءٍ ب: کے بہت زیادہ مانند، بالکل اس جیسا۔شیئاً بعد شیءٍ یا شیئاً فشیئاً: ذرا ذرا کر کے، آہستہ آہستہ، یکے بعد دیگرے، بتدریج۔ لاشیء: کچھ نہیں، ذرا بھی نہیں، مطلق نہیں، بالکل نہیں، صفر، معدوم شے، معدوم۔لیس بشیءٍ: یہ کچھ نہیں، یہ کوئی اہم بات نہیں۔لیس ھذا فی شیء من ذلک: اس کا اُس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔شُیَیِّیْ: واقعیت پسندانہ، واقعاتی۔ مشوئیّۃ: کسی حد تک کچھ۔

شاب: ا۔شابَ - شَیباً و شَیبۃً و مَشِیباً: سفید بالوں والا ہونا۔صفت أشیَب و شاءٍ ب م شائبۃ (شَیباء نہیں مگر شمطا بھی کہا جاتا ہے)۔کہتے ہیں: شابت رؤوس الآکام: ٹیلوں کی چوٹیاں برف سے سفید ہو گئیں۔شَیَّبَ الحزنُ فلاناً و بفلان: غم کا کسی کو بوڑھا کر دینا۔أشابَ الحزنُ فلاناً و بفلان: غم کا کسی کو بوڑھا کر دینا۔ — الرجلُ: بوڑھی اولاد والا ہونا۔الأشیَب جمع شِیب و شُیُب: سفید سر والا۔ — من الأیّام: ابر آلود اور برف باری کا دن۔الشِیب: برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ۔المَشائب

(فا) م شَائِبَة جمع شُيَّب: سفید بالوں والا۔ مبالغہ کے طور پر شیبٌ شَائِب کہا جاتا ہے۔ شَيْبَان و شِيْبَان: ماہ دسمبر۔ یوم شَيْبَانٌ: بادل برف اور سردی والا دن۔ الشَّيْبَة: اسم مرة۔ شاب کا اسم۔

۲۔ الشِّيب (ح): بھیڑیے سے بجو کا بچہ۔

○ شاب - شَيْبًا و شَيْبَةً و مَشِيبًا: سفید بالوں والا ہو جانا، خاکستری رنگ والا ہو جانا، (بالوں کا) سفید یا خاکستری ہو جانا، بوڑھا ہو جانا۔ ـــــ سفید بالوں والا بنانا۔ ــ ہ: کا رنگ اڑا دینا۔ شَيَّبَ ہ: کو سفید بالوں والا بنا دینا، (غم وغیرہ کا) کسی کے بالوں کو سفید کر دینا۔ شَيْب: بالوں کا خاکستری رنگ، خاکستری یا سفید بال، بڑھاپا۔ أَشْيَب م شَيْبَاء جمع شِيْب: سفید، خاکستری (بال) سفید بالوں والا، خاکستری بالوں والا (شخص) بوڑھا، بوڑھا شخص۔ مَشِيب: بالوں کا خاکستری رنگ، سفید یا خاکستری بال، بڑھاپا۔ شَائِب: سفید، خاکستری (بال): سفید یا خاکستری رنگ کے بالوں والا (شخص)، بوڑھا، بوڑھا شخص۔

شاح: ا۔ شاحَ - شَيْحًا علی حاجته: چوکنا رہنا، چوکس ہونا۔ شَيَّحَ ہٗ: کو ڈرانا۔ ـــ خصمَهُ: دشمن کو تنگ نگاہوں سے دیکھنا۔ أَشَاحَ إشاحَةً فی امرہ: میں چوکنا ہونا یا رہنا۔ ـــ وجهَه و بوجْهِهِ و ـ عنه وجهَهُ: سے کراہت کے ساتھ منہ پھیر لینا۔ الشِّيح من الرجال: چوکنا محتاط، چوکس۔ الشِّيَاح: ڈر۔ الشَّيْحَان و الشِّيحان و المُشِيح: غیرت مند، ہوشیار۔

۲۔ شَاحَ - شَيْحًا علی حاجته: کوشش کرنا۔ اشَاحَ إشاحَةً فی امرہ: میں کوشش کرنا۔ شَايَحَ مُشايَحةً و شِيَاحًا: لڑنا، جنگ کرنا۔ ـــ فی الامر: میں کوشش کرنا۔ الشِّيح من الرجال: کاموں میں کوشش کرنے والا۔ الشِّيَاح (مص): کوشش۔

۳۔ أشَاحَ إشَاحَةً المكانُ: کسی جگہ کا شیح نامی گھاس پیدا کرنا۔ الشِّيح واحد شِيحة (ن): گھاس کی ایک قسم جسے مویشی چرتے ہیں، خوشبودار پودا۔

۴۔ أشَاحَ إشاحَةً الفرس بذَنَبه: گھوڑے کا اپنی دم کو ڈھیلا چھوڑنا۔

۵۔ الشِّيَاح: قحط۔ الشَّيْحان و الشِّيحان و المُشِيح: طویل، لمبا، دراز۔

○ شَيَّح ہ: کو خشک کرنا۔ ـــ بوجهه او بعينِهِ عن: سے اپنا منہ یا آنکھیں پھیر لینا، ہٹا لینا۔ شَيَّاح: بلاٹنگ پیپر، سیاہی چوس۔ شِيح: افسنتین کی مشرقی قسم۔

شاخ: ا۔ شَاخَ - شَيْخًا و شِيُوخَةً و شُيُوخَةً و شِيُوخِيَّةً و شُيُوخِيَّةً و شَيْخُوخَةً و شَيْخُوخِيَّةً: بوڑھا ہونا۔ شَيَّخ: بوڑھا ہونا۔ ـ ہٗ: تعظیم کے لئے کسی کو شیخ کہہ کر بلانا، یا شیخ کہنا۔ تَشَيَّخ: بوڑھا ہونا۔ الشَّيْخ جمع شُيُوخ و شِيُوخ و أَشْيَاخ و شِيْخَة و شِيَخَة و شِيخان و مَشْيَخَة و مَشِيخَة و جمع الجمع مَشَايخ و اشاييخ م شَيْخَة تصغير شُيَيْخ و شِيَيْخ: بوڑھا، بڑی عمر کا۔ امراء و مُقدّموں سے چھوٹے درجے کے معززین کا لقب، استاد، عالم، قوم کا سردار، کسی صنعت کا بڑا شخص یا ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں علم، فضیلت اور مرتبہ و درجہ وغیرہ کے لحاظ سے بڑا ہو۔ شیخ المرأة: عورت کا شوہر۔ الشَّيْخُون: بوڑھا۔

۲۔ شَيَّخَ علیه: پر عیب لگانا، طعن و تشنیع کرنا۔ ـــ به: کو رسوا کرنا۔

۳۔ شیخ النار: ابلیس سے کنایہ ہے۔ الشَّيْخِيَة: ایک پھولدار پودا جو کھیتوں اور راستوں کے کناروں پر اُگتا ہے۔

○ شیخ جمع شیوخ وغیرہ: بوڑھا، معزز شخص، سردار، شیخ، بزرگ، سردار قبیلہ، خلیج فارس کے ساحل پر ریاستوں میں سے ہر ریاست کا حاکم، استاد، بڑا، عظیم، سینیئر۔ شیخ البحر: ویل مچھلی کا بچہ۔ شیخ البلد: گاؤں کا چوہدری۔ شیخ السجّادہ: سجادہ نشین۔ شیخ الاسلام: مفتی اعظم کا لقب۔ شیخ المدینة: پولس انسپکٹر۔ مشیخة الجامع الاعظم: تونس میں جامع اعظم یونیورسٹی کی پروفیسری یا پروفیسر صاحبان، یا اس یونیورسٹی کا ایک شعبہ۔ مجلس الشیوخ: سینیٹ (Senate)۔ شیخة جمع شیخات: میٹرن (matron)۔ شِيَاخَة: شیخ کا منصب، یا مرتبہ۔ شَيْخُوخَة: بڑھاپا، ضعیفی، سٹھیا جانا۔ شيخوخی: بڑھاپے کا، ضعیفی کا، سٹھیا جانا۔ شيخوخی: بڑھاپے کا، ضعیفی کا، سٹھیا ہوا، بڑھاپے کی خصوصیت۔ مَشْيَخَة جمع مَشْيخات و مَشَايخ: شیخ کا منصب یا مرتبہ، خلیج فارس کے ساحل پر آزاد علاقوں میں سے ہر ایک آزاد علاقہ، تیونس کا انتظامی ضلع۔ (یونیورسٹی کے پروفیسر، یا اس کی پروفیسری یا شعبہ)۔

شاد: ا۔ شَادَ - شَيْدًا البناءَ: عمارت بلند کرنا۔ شَيَّدَ البناءَ: عمارت کو بلند کرنا۔ أَشَادَ بذکرہ: کی تعریف کر کے شہرت دینا۔ ـــ علیه قبيحًا و بقبیح: کسی کو برائی سے مشہور کرنا، بدنام کرنا۔ ـــ علیه: کسی کے بارے میں برائی کو شہرت دینا۔ ـــ المغنّی: گانے والے کا بلند آواز سے گانا۔ ـــ صوته و بصوته: اونچی آواز میں برائی بیان کرنا جو نیم مذمت ہے۔ ـــ الضالّةَ: گمشدہ چیز کی وضاحت کرنا۔ ـــ البنیانَ: عمارت کو لمبا کرنا۔ المَشِيد و المشيَّد: بلند و بالا۔

۲۔ شاد - شَيْدًا و شَيَّدَ الحائطَ: دیوار پر چونے کا پلستر کرنا۔ ـــ جلْدَہ بالطیب: جسم پر خوشبو ملنا۔ ـــ الشید: گچ وغیرہ کا پلستر۔ المَشِيد (مفع): پلستر شدہ۔

۳۔ شَادَ - شَيْدًا الرجُلُ: آدمی کا ہلاک ہو جانا۔ أَشَادَ إشَادَةً ہٗ: کو ہلاک کر دینا۔

۴۔ شاد - شِيَادًا الإبلَ: اونٹوں کو بلانا۔

○ شَادَ - شَيْدًا ہ: (عمارت وغیرہ) کھڑی کرنا، تعمیر کرنا، قائم کرنا، بنانا۔ شَيَّدَ ہ: بمعنی شَادَهُ۔ أشاد: بمعنی شاد۔ أَشاد به یا بذکرہ: کی تعریف کرنا، شہرت کرنا، حمد کرنا، حمد و ثنا کرنا، کو خراج تحسین پیش کرنا۔ شِيد: (دیوار کا) پلستر، پلاسٹر آف پیرس، چونا، گارا۔ تَشْيِيد: کھڑا کرنا، قائم کرنا، تعمیر کرنا، بنانا (عمارت وغیرہ) تعمیر۔ إشادة (ب): کی تعریف، سفارش، تعریف کے پل باندھنا، سراہنا۔ مُشَيَّد: بلند و بالا، اونچی شاندار، رعب دار مرعب کن (عمارت)۔

شیر: الشِّيْر عند العامة: گرنے کو تیار بڑی چٹان۔ اسے مِسَّار بھی کہتے ہیں۔ (دونوں سریانی لفظ ہیں)۔

شیز: شَيَّزَ البُرْدَ: چادر پر سرخ دھاری ڈالنا۔ الشِّيز و الشِّيزَی: سیاہ اور بہت سخت لکڑی یا آبنوس کی لکڑی۔ کہتے ہیں فلان يملأ الشِّيزی: فلاں شخص آبنوس کی لکڑی کا بنا ہوا کشکول کھانے سے بھر دیتا ہے، سخاوت سے کنایہ ہے۔

شاش: أَشَاشَ ت النخلةُ: درخت خرما کا نرم گٹھلی کی کھجور والا ہونا۔ الشِّيش: نرم گٹھلی کی کھجور۔ عام لوگ گوشت بھوننے کی لوہے کی سیخ کو کہتے ہیں۔ الشِّيشَة: حقہ۔

○ شِيش: نیچہ، کٹاری، گتکا۔ معلمُ الشیش: تیغ زنی، شمشیر زنی، پٹے بازی سکھانے والا۔ لعبةُ الشِّيش: تیغ زنی، شمشیر زنی، پٹے بازی، شمشیر بازی۔ شیشة: نارغیلی کی بوتل، نارغیله: حقہ۔

شاص: ا۔ شَيَّصَ القومَ: قوم کو ایذائیں پہنچا کر سزا دینا۔ الشِّيَاص: بدمزاجی۔ المُشَايَصَة: دشمنی، منافرت۔

۲۔ شَيَّصَ ت النخلةُ: درخت خرما کا ردی کھجور لانا۔

أشاص ت النخلةُ: درخت خرما کا ردی کھجور لانا۔ الشیص: ردی کھجور۔ الشیصاء واحد شِیصاءۃ: نرم گٹھلی کی کھجور۔

۳۔الشِیص (واحد شیصۃ) (ح): ایک قسم کی مچھلی۔

شاط: ۱۔ شاطَ۔ شَیطًا و شِیاطۃً و شَیطُوطۃً الشیءُ: چیز کا جلنا۔ ـــ ت القدرُ: ہانڈی کی تہہ میں پکی ہوئی چیز کا جل کر لگ جانا۔ ـــ الزیتُ: تیل کا گاڑھا ہو کر جلنے کے قریب ہونا۔ شَیَّطَ و أشاطَ الصقیعُ النبتَ او الدواءُ الجرحَ: پالے کا پودوں کو اور دوا کا زخم کو جلا دینا۔ ـــ الرأسَ او الکُراعَ: سری یا پایوں کے بالوں کو آگ پر جھلسانا۔ ـــ القدرَ: ہانڈی کو جوش دینا۔ تَشَیَّطَ: جلنا، جل جانا۔ اِشتاطَ علیہ: پر غصہ سے بھڑکنا۔ اِستَشاطَ علیہ: پر غصہ سے بھڑکنا۔ ـــ فی الحربِ: جنگ میں اپنی جان جھونکنا۔ الشِیاطُ: روئی وغیرہ جلنے کی بو۔ عام لوگ اسے شُوِیط کہتے ہیں: التَّشییطُ و المُشَیَّط: قوم کے لئے بھونا ہوا گوشت۔

۲۔ شاطَ۔ شَیطًا و شِیاطۃً و شَیطُوطۃً ت الذبیحۃُ: ذبیحہ کا سب گوشت بانٹ لینا۔ ـــ فلانٌ: فلاں کا ہلاک ہونا۔ ـــ دمُہٗ: کا خون رائیگاں جانا۔ فلانٌ الدماءَ: خون ملانا، یعنی قاتل کو مقتول کے خون پر قتل کرنا۔ أشاطَ اللحمَ علی القومِ: گوشت کو لوگوں پر تقسیم کرنا۔ ـــ فلانًا: کو ہلاک کرنا۔ ـــ دمَ الجزورِ: قربانی کے اونٹ کا خون بہانا۔ ـــ السلطانُ دمَہٗ و بدمہٖ: کسی کو قتل کے لئے سامنے لانا، کے خون کو مباح کرنا۔

۳۔ شاطَ۔ شَیطًا و شِیاطۃً و شَیطُوطۃً فی الامرِ: کام میں جلدی کرنا۔ اِستَشاطَ الحمامُ: کبوتر کا خوش ہو کر اڑ جانا۔ ـــ من الامرِ: ہلکا ہونا۔

۴۔الشَیطِیّ: فضا میں بلند ہونے والا غبار۔ المُستَشِیط: بہت ہنسنے والا، موٹا اونٹ۔

۵۔شَیطَنَ و شَیطان: دیکھو شطن۔

○ شاطَ۔ شَیطًا: (خوراک کا) جل جانا۔ شَیَّطَہٗ: کو ہلکا سا جلانا، ذبیحہ کے بال و پر جلانا، جھلسانا۔ أشاطَ بمعنی شَیَّطَ۔ تَشَیَّطَ: بمعنی شاطَ۔ اِستَشاطَ غضباً: طیش میں آنا، آگ بھبھوکا ہو جانا۔

شاع: ۱۔ شاعَ۔ شَیعًا بالخبرِ: خبر پھیلانا۔ شَیعًا و شُیُوعًا و مَشاعًا و شَیَعانًا و شَیعُوعۃً الخبرُ: خبر کا پھیلنا۔ ـــ فیہ الشیبُ: کسی میں بڑھاپا ظاہر ہونا۔ أشاعَ إشاعۃَ الخبرَ و بالخبرِ: خبر پھیلانا، نشر کرنا۔ تَشَیَّعَ الشیبُ: میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا۔ ـــ اللبنُ فی الماءِ: دودھ کا پانی میں بکھرنا۔ تَشایَعَ ت الابلُ: اونٹوں کا متفرق ہونا۔

الشائع (فا): حدیث شائع و شاعٌ: پھیلی ہوئی افشا شدہ بات۔ شاعٍ (عین کلمہ کے حذف کے ساتھ) پھیلا ہوا۔ الشاعۃ: پھیلی ہوئی خبریں (یہ شائع کی جمع ہے)۔ المَشاع و المُشاع: پھیلا ہوا۔ رجلٌ مِشیاعٌ: وہ شخص جو اپنے راز کو نہ چھپائے۔ راز کو پھیلانے والا مرد۔

۲۔ شاعَ۔ شِیاعًا ہٗ: کے پیچھے پیچھے چلنا، ساتھ ساتھ چلنا، کا ساتھ دینا، کے ہمراہ جانا۔ اسی سے ہے: شاعکم السلامُ (سلامتی تمہارے ساتھ رہے)۔ شاعَکُم اللّٰہ بالسلام: خدا تمہارے ساتھ سلامتی رکھے۔ شَیَّعَہٗ: کے ساتھ اسے رخصت کرنے کے لئے یا اس کی منزل تک پہنچانے کے لئے جانا۔ ـــ الشیءَ: کو بھیجنا اور اس کے پیچھے پیچھے جانا۔ ـــ الرجلُ: شیعہ ہونے کا دعوی کرنا۔ شایَعَہٗ: کے ہمراہ جانا، کے سپرد کوئی کام کرنا۔ ـــ بھم الدلیلُ: رہنما کا لوگوں کو بلانا۔ ـــ بالابلِ: اونٹوں کو پکار کر بلانا۔ أشاعَ بالابلِ: بعض اونٹوں کے پیچھے رہ جانے پر بلانا۔ کہتے ہیں اشاعکم اللّٰہُ السلامَ و بالسلامِ: اللہ سلامتی کو تمہارا تابع کرے۔ تَشَیَّعَ: شیعہ ہونے کا دعوی کرنا۔ تَشایَعَ تَشایُعًا القومُ: مختلف گروہ ہو جانا۔ تَشایَعُوا علی الامرِ: کسی معاملہ پر اتفاق کرنا۔ تَشایَعُوا فی دارٍ: کسی گھر میں شریک ہونا۔ اِشتاعا اِشتیاعًا فی دارٍ: دو کا کسی گھر میں شریک ہونا۔ الشِیاعُ: چرواہے کی بانسری یا آواز۔ (یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ چرواہا اس سے اپنے اونٹوں کو اکٹھا کرتا ہے)۔ الشیعۃ: واحد شِیعِیّ: فرقہ (واحد، اثنین اور جمع یہ مذکر و مؤنث پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ نام اغلبًا حضرت علی اور ان کے اہل بیت کے طرفداروں کے لئے خاص ہے اور متوالی جس کی جمع مَتاوِلِہ ہے کے نام سے بھی معروف ہے۔ یعنی شام میں شیعہ فرقہ کا ایک رکن۔ شیعۃُ الرجلِ جمع شِیَعٌ و أشیاعٌ: کسی آدمی کے پیرو اور مددگار۔ سھمٌ شائعٌ و شاعٌ: وہ حصہ جو مشترک ہو اور تقسیم نہ ہوا ہو۔ الشاعۃ: بیوی۔ الشَیِّع جمع شُیَعاء م شَیِّعۃ: حصہ دار، شریک۔ کہتے ہیں ھذا شَیِّعُ لِھذا: وہ اس معاملہ جو دونوں میں مشترک ہے حصہ دار ہے۔ نیز کہتے ہیں الدارُ شَیِّعۃٌ بینھما: گھر دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ الشُیُوعی: کمیونسٹ۔ الشُیُوعیۃ: کارل مارکس کا اجتماعی مسلک۔

المَشاع و المُشاع: مشترک، غیر منقسم۔ اسی سے ہے مَشاعُ القری: وہ اراضی یا جنگلات جن میں گاؤں کے سب باشندے شریک ہوں۔ المتشایع و المَتشاع: شریک، ساجھی۔

۳۔ شاعَ۔ شَیعًا الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ المَشیع: بھرا ہوا برتن، کمینگی سے بھرا ہوا، کینہ در کینہ۔

۴۔شَیَّعَ الرجلَ: کو جرأت دلانا، قوی کرنا۔ ـــ النارَ: آگ تیز کرنے کے لئے اس میں لکڑیاں ڈالنا۔ ـــ الشیءَ بالنارِ: چیز کو آگ سے جلانا۔ تَشَیَّعَ ہٗ الغضبُ: کے دل میں غصہ بھڑکنا۔ ـــ فلانٌ فی الشیءِ: کی محبت میں جان ہلاک کرنا۔ الشِیاعُ: وہ چیز جس سے آگ جلائی جائے۔ الشَیُوع: وہ چیز جس سے آگ جلائی جائے۔ المِشیاع: تنور کی آگ ہلانے کی سیخ۔ المُشَیَّع (مفع): بہادر، جلد باز۔

۵۔شَیَّعَ شھرَ رمضان: رمضان کے مہینہ کے بعد چھ دن روزے رکھنا۔ الشَیع جمع أشیاع: مقدار۔ (کہتے ہیں) اقمتُ عندہ شھرًا او شَیعَ شھرٍ: میں اس کے پاس ایک ماہ یا اس کی مقدار رہا۔ کان معہ مائۃُ رجلٍ او شَیعُ ذلک: اس کے ساتھ ایک سو آدمی یا اسکے لگ بھگ تھے۔) مثل۔ کہتے ہیں ھذا شَیعُ ذاک: یہ اس کی مثل ہے۔ اسی سے ہے: کما فعل بأشیاعھم: جس طرح کے ان کے مثل لوگوں کے ساتھ کیا۔ کہتے ہیں: نزلوا موضع کذا او شَیعَہٗ: وہ فلاں جگہ یا اس کے قریب اترے۔ آتیکَ غدًا او شیعَہٗ: میں تیرے پاس کل یا اس کے بعد آؤں گا۔

۶۔المُشَیَّعۃ: وہ ٹوکری جس میں عورتیں روئی وغیرہ رکھتی ہیں۔

○ شاعَ۔ شَیعًا و شُیُوعًا: پھیلنا، فاش ہونا، معلوم ہونا، عام ہونا (خبر وغیرہ)۔ ـــ فی: پر پھیلانا، پر منتشر کرنا (احساس کا) کسی شخص یا چیز میں سرایت کرنا، رچ بس جانا، کسی شخص یا چیز پر غلبہ یا تسلط رکھنا۔ شاعَ فی: پر چسپاں ہونا، لاگو ہونا، موزوں ہونا، سے عام طور پر منسوب ہونا، پر محمول ہونا۔ أشاعَ: کو پھیلانا، افشا کرنا، کی نشر و اشاعت کرنا، کو پھیلانا، مشہور کرنا، کے علم میں لانا، عام لوگوں کے نوٹس میں لانا۔ شَیَّعَ ہٗ: کو چھوڑنے جانا، کی مشایعت کرنا، کے ساتھ جانا، ہمراہ ہونا، کے ہمرکاب ہونا، کی حفاظت کے لئے اس کے ہمراہ جانا، کو خدا حافظ کہنا، کو الوداع کہنا، سے رخصت ہونا، کی آخری رسوم میں شریک ہونا۔ شَیَّعَ ہ/ہ: کو بھیجنا۔ ہ: (کسی جتھے، ٹولی، گروہ وغیرہ)

سے وابستہ ہونا۔ شُيِّعَتِ الجنازة: مرحوم کو اس کی آخری آرام گاہ تک لے جایا گیا، جنازہ یا تجہیز و تکفین کا واقع ہونا۔ شَايَعَ ہ علی: کسی بات میں کسی کی پیروی کرنا، خود کو کسی بات میں کسی کے مطابق بنانا، کسی بات میں کسی سے متفق ہونا۔ ہ/ہ علی: کسی بات میں کسی شخص یا چیز کی حمایت کرنا، کسی بات میں کسی شخص یا چیز کا ساتھ دینا، طرفداری کرنا، جانبداری کرنا۔ أَشَاعَ ہ/ب: کو پھیلانا، افشا کرنا، کو شائع کرنا، کی نشر و اشاعت کرنا، کو علم میں لانا، عوام کے علم میں لانا، مشہور کرنا۔ تَشَيَّعَ ل فی: کسی معاملہ میں کسی شخص یا بات کی حمایت کرنا، کسی معاملہ میں کسی شخص یا چیز کے لئے ساتھ دینا۔ ل۔ کسی شخص، چیز، جتھا گروہ سے جاملنا، یا میں شامل ہونا، کسی غرض کے لئے، کسی سے متحد ہونا، کو پسند کرنا، کو منظور کرنا۔ — شیعہ ہو جانا، شیعہ بن بیٹھنا۔ تَشَايَعَ علی: میں یا کے متعلق یا بارے میں کسی سے متفق ہونا۔ شِيْعَة جمع شيع: پیرو، حامی، حمایتی وابستہ، طرف دار، ہوا خواہ، تبع، مرید، چیلا، گروہ، ٹولہ، جتھا، جماعت، فرقہ۔ الشيعة: حضرت علی کا گروہ، شیعہ (جو حضرت علیؑ کو نبی کریم کا جائز اور حق دار خلیفہ تسلیم کرتے ہیں) جمع اشیاع: پیرو، حامی، تبع اور کٹر طرفدار۔ شِيْعِي جمع شيعيون: شیعہ۔ شِيَاع: اشتراک (جائداد غیر منقولہ میں)۔ شُيُوع: نشر و اشاعت، پھیلاؤ (خبر وغیرہ)۔ علی الشُيُوع: مشترکہ طور پر، مشترکہ قبضہ میں۔ شُيُوعِي: کمیونسٹ، اشتمالی، اشتمالی انداز کا۔ جمع۔ شُيُوعِيُون: کمیونسٹ، اشتمالی۔ شُيُوعِيَة: اشتمالیت، کمیونزم۔ تشييع الجنازة: تجہیز و تکفین، تدفین۔ مُشَايَعَة: کٹرپن، جانبداری۔ إشاعة: پھیلانا، نشر و اشاعت (خبروں کا) افواہ، خبر، اطلاع۔ إشاعِيَة: اجتماعیت۔ تَشَيُّع ل: (کے لئے) کٹرپن، جانبداری، تعصب۔ شائع: دور دور تک پھیلا ہوا، مشہور و معروف عام، عوامی، عمومی، ہمہ گیر، عالمگیر۔ الشائع أَنَّ: افواہ ہے کہ..... شائع الذيوع: بہت مشہور، دور دراز تک پھیلا ہوا۔ عام۔ شائع الاستعمال: عام استعمال میں، عموماً مستعمل، عام طور پر تسلیم شدہ۔ مِلك شائع: مشترکہ جائداد۔ شائعة جمع شائعات و شَوائِع: افواہ۔ مُشايِع: طرفدار، جانبدار، پیرو، حامی، کٹر۔ مَشاع: دور دور تک پھیلا ہوا، معروف، عوامی، عام، عالم گیر، ہمہ گیر، مشترک، مشترک یا اجتماعی ملکیت، مشترک، لگان داری، کرایہ داری (اسلامی قانون میں)، عوامی ملکیت، عوامی جاگیر، زمینداری۔ مُتَشَيِّع: جانبدار، کٹر۔ مُتَشَاع: حصہ دار، شریک، ہم شریک، ہم مالک

شاق: شَاقَ - شَيْقًا ہ إليه: کو سے کس کر باندھنا۔ کہتے ہیں شاق الطُّنُبَ إلى الوتد: اس نے رسی کو کھونٹی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ الشِيق: پہاڑ کی چوٹی یا اس کی دشوار جگہ، جانب پہاڑ کی تنگ درز، جانور کی دم کے بال۔ — واحد شِيقَة (ح): ایک سمندری مچھلی۔

شال: شَالَ - شَيْلًا الشيءَ: کسی چیز کو کسی جگہ سے نکالنا۔ دودَ القزّ: ریشم کے کیڑے پالنا۔ الشَيْلة: بھاری پتھر یا لوہے وغیرہ کا ٹکڑا جسے اٹھا کر طاقت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ الشَيَّال: بوجھ اٹھانے والا، قلی۔ الشِيالة: قلی کا پیشہ۔ الشَيَّالة: کپڑے کا ٹکڑا جس کے ذریعہ ہانڈی آگ سے اتاری جاتی ہے (عام زبان)۔

(ن) شال - شيلا ہ: کو اٹھا کر لیجانا، لیجانا، اٹھانا، اونچا کرنا۔ شَيْلَة جمع شَيْلات: بوجھ، بار۔ شِيالة: لیجانا، نقل و حمل، بار برداری، خرچہ بار برداری، اجرت بار برداری۔ شَيَّال جمع شَيَّالون و شَيَّالَة: قلی، بار بردار۔ مِشال: لیجانا، بار برداری، نقل و حمل، اجرت، بار برداری۔

شام: ا۔ شَامَ - شَيْمًا: بدن پر تل ہونا۔ صفت: أَشْيَم م شَيْماء جمع شِيم و شُوم۔ الشَامَة جمع شام و شامات: تل۔ (کہتے ہیں: صاروا شاماً فی البلاد: وہ شہروں میں بکھر گئے جیسے بدن پر تل بکھرے ہوتے ہیں)۔ زمین میں سیاہ نشان، چاند کے بیچ کی سیاہی (ح): سیاہ اونٹنی۔ المَشِيم و المَشُوم و المَشْيُوم: تل والا۔

۲۔ شَامَ - شَيْمًا السيفَ: تلوار کو میان میں کرنا، تلوار کو میان سے نکالنا (ضد)۔ — شَيْمًا و شُيُومًا الرجُلُ: لڑائی میں جم کر حملہ کرنا۔ — فی الشیء: میں داخل ہونا۔ — الشیء فی الشیء: کو میں چھپانا۔ شَيَّمَ يديه فی رأس فلان او ثوبه: کے سر یا کپڑے کو پکڑ کر لڑنا۔ — فی الشیء او الامر: میں داخل ہونا۔ أَشَامَ و اِنْشَامَ و اشْتَامَ فی الشیء او الامر: میں داخل ہونا۔ تَشَيَّمَ الشیءُ فی الشیء: کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہونا۔ — الشيبُ فلانا: کسی پر بڑھاپا آجانا۔ المَشِيمَة جمع مَشِيم و مَشَايِم: وہ جھلی جس میں بچہ ماں کے پیٹ سے بوقت پیدائش نکلتا ہے۔

۳۔ شَامَ - شَيْمًا البرقَ: بجلی کے چمکنے اور برسنے کی سمت کو دیکھنا۔ کہتے ہیں شَامَ مخايلَ الشیء: کسی چیز کے انتظار میں اس کی طرف دیکھنا۔ اِنْشَامَ الرجُلُ: منظور نظر ہونا۔

۴۔ شَامَ - شَيْمًا و شُيُومًا الشیءَ: کا اندازہ کرنا، تخمینہ لگانا۔ کہتے ہیں: شِمْ مابينهما: ان دونوں کے درمیان اندازہ کرو۔

۵۔ تَشَيَّمَ أَباه: خصلت میں اپنے باپ کے مشابہ ہونا۔ الشِيمة و الشِيْمَة جمع شِيَم: خُلق، طبیعت، عادت۔

۶۔ الشَيْم: وہ زمین جس میں پہلے کھدائی نہ کی گئی ہو اور وہ اپنی سختی پر برقرار ہو۔ الشَيَام: نرم زمین، مٹی۔ الشِيَام جمع شِيَم: مٹی۔ (ح): چوہا۔

(ن) شام - شيما ہ: کا منتظر ہونا، کی توقع کرنا۔ شِيمِيَة جمع شَيامِي: بھنور، گرداب، بگولا، گرداب، چکر۔

شان: شَانَ - شَيْنًا ہ: شکل بگاڑنا، کو ذلیل کرنا، پر عیب لگانا۔ شَيَّنَ الشِيْنَ: حرف "ش" لکھنا۔ المَشَاين: عیوب، مصائب۔

(ن) شَائِن و مُشَيِّن: ذلت آمیز، شرمناک، رسوا کن، رسوائی کا موجب۔

شاه: شَاهَ - شَيْهًا ہ: کو نظر بد لگانا۔ الشَيُوهُ: نظر بد لگانے والا۔ کہتے ہیں هو شَيُوهٌ من أَشْيَهِ الناس: اس کو سب سے زیادہ نظر لگتی ہے۔ شِيبِي: الشَای (ن): چائے کا پودا، چائے۔

ص

ص تلفظ صاد، حروف تہجی کا چودھواں حرف۔ حروف ابجد میں اس کا نمبر شمار ۹۰ ہے۔

صئب ۱۔ صَئِبَ -صَأَباً من الشراب شراب یا مشروب سے سیر ہونا، بھرنا۔ المِصْأَب: شراب یا مشروب سے بھرا ہوا یا سیر شدہ۔

۲۔ صَئِبَ -صَأَباً و أَصْأَب الرَّأْسُ: سر کا لیکھوں سے پر ہونا۔ الصُّؤَابة جمع صُؤَاب و صِئْبَان: لیکھ؛ جوں کا انڈا۔ الصِئبان: چھوٹے چھوٹے اولے۔

○ ص: صفحہ کا مخفف ص ب: صندوق البرید کا مخفف: ڈاک کا ڈبہ، پوسٹ بکس۔

صاص: صَاصَا الجروُ: پلے کا آنکھیں کھولنے کے قریب ہونا۔ الرجلُ: بزدل ہونا۔ و تَصَأْصَأَ منه: سے ڈرنا کا مطیع ہونا۔ الصِئْصَاء: ردی کھجوریں۔ صِئْصِئَةُ الدیك: مرغ (کی ٹانگ) کا پنجہ، چنگل۔

صئك: ۱۔ صَئِكَ -صَأَكاً: بدبودار پسینہ آنا۔

۲۔ صَئِكَ -صَأْكاً الدمُ: خون کا جمنا۔ بہ: سے چمٹنا۔ صَاءَكَ مُصَاءَكَةً ہ: کے ساتھ سختی سے پیش آنا، کو تنگی ڈالنا۔ الصَئِك من الرجال: مضبوط آدمی۔

صؤل: صَؤُل یَصْؤُلُ صآلةً البعیر: اونٹ کا لوگوں پر حملہ آور ہونے اور انکو مار ڈالنے لگنا۔ صفت صَؤُول۔ صَأَلَ یَصْئِلُ صَئِیلاً الفرسُ: گھوڑے کا ہنہنانا۔

صأم: صَأَمَ -صَأْمًا الجیشَ علی القوم: فوج کو لوگوں تک پہنچنے کا راستہ دکھانا۔ صَئِمَ -صَأَماً: بہت پانی پینا۔ الصَائِم: پیاسا۔

صأی: صَأَی یَصْئِی و یَصْأَی صُئِیًّا و صَئِیًّا و صِئِیًّا و تَصَأْصَأَ الفرخ: چوزہ کا چوں چوں کرنا، بچھو کا آواز نکالنا، اسی سے مثل مشہور ہے: یلذع و یَصْئِی: (بچھو ڈستا بھی ہے اور آواز بھی نکالتا ہے) مراد ظلم بھی کرتا ہے اور شکایت بھی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ جَاءَ بما صَأَی و صمت یعنی وہ ناطق اور صامت دونوں قسم کا مال لایا غالباً ناطق مال سے مراد جانور اور صامت مال سے عام اشیاء صرف ہے۔ أَصْأَى الفرخَ: چوزے سے چوں چوں کرانا۔

صب: ۱۔ صَبَّ -صَبًّا الماءَ: پانی گرانا، بہانا۔ — فی الوادی: وادی میں اترنا۔ الدرعَ: زرہ پہننا۔ صَبَبْتُ الدرعَ علی فلانٍ: میں نے فلاں کو زرہ پہنائی کہتے ہیں۔ صَبَّ علیه البلاءَ من صبب: اس نے اس پر اوپر سے مصیبت ڈالی۔ صَبَّ اللّٰهُ علیه صاعقةً: اللہ اس پر بجلی گرائے۔ صَبَّ رِجْلَه فی القید: اس نے اس کے پاؤں میں بیڑی پہنائی۔ — صَبًّا الماءُ: پانی کا گرنا، پانی کا بہنا۔ أَصَبَّ إِصْبَاباً القومُ: قوم کا نیچے اترنا۔ تَصَبَّبَ الماءُ ونحوه: پانی وغیرہ کا بہنا۔ تَصَابَّ الماءَ: بقیہ پانی پینا۔ — العیشَ: باقی ماندہ زندگی گزارنا۔ انْصَبَّ الماءُ: پانی گرنا۔ علیه: پر اترنا کہتے ہیں: انصبت قدماه فی الوادی: اس کے پاؤں وادی میں ٹھہر گئے۔ اصْطَبَّ الماءُ: پانی گرنا۔ — الماءَ: باقی ماندہ پانی پینا۔ العیشَ: باقی ماندہ زندگی گزارنا۔ ماءٌ صَبٌّ: بہا ہوا پانی۔ الصُبّ: گرایا ہوا کھانا وغیرہ۔ الصُبَّة: گرایا ہوا کھانا وغیرہ، برتن میں بچا ہوا پانی یا دودھ (ط) شوربا۔ الصَبَب جمع أَصْباب: دریا یا راستہ کا ڈھلان۔ نشیبی زمین یا راستہ الصُبَابة جمع صُبابات: برتن میں بچا ہوا پانی وغیرہ۔ کہتے ہیں۔ لم ادرك من العیشِ الاصُبَابَةً: یعنی مجھے بچی کھچی زندگی ملی ہے۔ الصَبِیب: پسینہ، خون، جسم کا نچوڑ، اوپر سے گرائی ہوئی چیز، عام لوگ کہتے دم صبیب: ملاوٹ سے خالی خون۔ المَصَبّ جمع مَصَابٌ: گرنے کی جگہ، دریا کا دہانہ۔ المِصَبّ: حروف وغیرہ ڈھالنے کا آلہ۔ المَصْبُوب علی الشیء: (مفع) پر برانگیختہ کیا ہوا۔

۲۔ صَبَّ -صَبَابَةً الیه: پر عاشق ہونا، فریفتہ ہونا۔ الصَبّ: (مص) عاشق، سخت فریفتہ کہتے ہیں۔ رجلٌ صَبٌّ جمع صَبُّون م صَبَّة جمع صَبَّات: عاشق (مرد) عاشق (عورت) الصبابة: سوزش، عشق، سخت محبت۔

۳۔ صُبَّ الشیءُ: چیز کا مٹایا جانا، نیست و نابود اور برباد کیا جانا۔

۴۔ الصُبَّة: جماعت، گروہ، ٹولہ، گھوڑوں، اونٹوں اور بکریوں کا ایک گلہ، تھوڑا مال۔ الصَبِیب: (ن) ایک پھولدار پودا، پھولوں سے رنگ بنایا جاتا ہے، اولہ، عمدہ شہد، سرخ رنگ، تلوار کی دھار کہتے ہیں۔ وضعت صبیب السیف فی بطنه: میں نے اپنی تلوار کی دھار اس کے پیٹ کے کنارے میں رکھ دی۔

۵۔ صَبْصَبَ ہُ و تَصَبْصَبَ: اس نے اسے پراگندہ کیا تو وہ پراگندہ ہو گیا۔ تَصَبْصَبَ اللیلُ: رات کا زیادہ حصہ گزر جانا۔

۶۔ تَصَبْصَبَ الحرُّ: گرمی کا تیز ہو جانا۔ — علینا فلانٌ: (ہم پر) بہت جری ہونا۔ الصبصاب و الصَبْصَب و الصُبَاصِب: سخت، مضبوط۔

○ صَالَة جمع صالات: ہال، بڑا کمرہ۔

صالُون: سیلون، بیٹھک، دیوان خانہ، کمرہ استقبال۔ عَرَبَةُ صالون: پارلر کار، کلب کار۔

○ صب۔ صَبًّا ہ فی: کو میں انڈیلنا، گرانا، ڈالنا، خالی کرنا۔ بھرنا۔ علیه بلاءً: کو مصیبت میں ڈالنا۔ صب الغارة: دھاوا بولنا، حملہ کرنا — صِباً: (میں)

انڈیلا جانا، گرنا، بہنا۔ ـــعلی: پر پڑنا، واقع ہونا، پر اتفاقاً پہنچ جانا، ٹوٹ پڑنا، چڑھ دوڑنا، اچانک حملہ آور ہونا۔ صَبابَةً اِلی: سے سرگرم محبت کرنا۔ تَصَبَّبَ: گرنا، بہنا۔ ہ: میں رنگا ہوا ہونا، میں بکثرت ہونا، میں نہانا۔ ـــ: حل ہونا، پگھلنا۔ تَصَبَّبَ عَرَقاً: پسینہ میں شرابور ہونا، پسینہ آجانا۔ اِنْصَبَّ: انڈیلا جانا، گرایا جانا، بہنا، زور سے نکلنا۔ ـــ علی / الی: کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا، میں منہمک ہونا، پر تلا ہوا ہونا، کو تندہی سے کرنا، کچھ بننے یا کرنے کی کوشش کرنا، کی طرف رخ ہونا، کا نشانہ یا ہدف ہونا۔ صَبَب جمع اَصْبَاب: ڈھلان، پہاڑی علاقہ۔ صَبِیب: گرایا ہوا، بہایا ہوا، خون، پسینہ۔ صَبابَة: عشق، سرگرم محبت، پر دلولہ خواہش آرزو۔ صُبابَة: بقیہ، باقی ماندہ، بچا کھچا۔ مَصَبّ جمع مَصَبّات و مَصَابّ: نکلنے کا راستہ، بچنے کا ذریعہ، نجات، چھٹکارا، دریا کا دہانہ، نالی، نالی کا پائپ، قیف، دودکش۔ مصبوبات: ڈھلی ہوئی دھاتوں کی چیزیں، فونڈری کا تیار کردہ مال۔

صبأ: ۱۔ صَبَأَ ـ وَصَبُوَ ـ صَبْأً و صُبُوءاً: مذہب تبدیل کرنا، ایک مذہب سے نکل کر دوسرے میں چلا جانا، صابی ہونا۔ صفت۔ صَابِئ جمع صَابِئُون و صابئة۔

۲۔ صَبَأَ ـ وَصَبُوَ ـ صَبْأً ـ صُبْأً و صُبُوءاً علیهم: پر حملہ کرنا۔ العدوّ علیهم: دشمن کو ان تک پہنچنے کا راستہ دکھانا۔ الناب او النبات: دانت یا نبات کا نکلنا، پھوٹنا۔ اَصْبَأَ اصباءً القوم: پر حملہ کرنا۔ الناب او النبات: دانت یا نبات کا نکلنا، پھوٹنا۔

۳۔ الصَّبَاوُت و الصَّبَاؤُوت جمع صَبِیٔ: شان و شوکت، حسن و بزرگی (عبرانی میں) ربُّ الصَّبَاوُت: شان والا۔ الصابئون و الصابئة: (صابی کی جمع) ستاروں کی پرستش کرنے والی ایک قوم بعض کے نزدیک وہ قوم جو خود کو دین نوح علیہ السلام کا پیرو جانتی ہے۔ اور کہا گیا ہے: ان کے علاوہ ہیں۔

صبح: ۱۔ صَبَحَ ـ صَبْحاً القومَ: قوم کے پاس صبح کے وقت آنا۔ صَبَحَ ہ: کے پاس صبح کے وقت آنا، کو صبح کی شراب پلانا۔ ـــ الرجلَ: کو صبح کے وقت سلام کرنا کہتے ہیں۔ صَبَّحَكَ اللّٰهُ بالخیر: اللہ تمہاری صبح بخیر کرے۔ ـــ القومُ الماءَ: قوم کو چلا کر صبح کے وقت پانی پر لانا۔ اَصْبَحَ: صبح میں داخل ہونا، نصف رات کو جاگنا۔ اَصْبِحْ یا رَجُلُ کا معنی ہے: اے شخص! غفلت سے بیدار ہوجا۔ تَصَبَّحَ: صبح کا ناشتہ کرنا۔ صبح کو سونا۔ ـــ: سے صبح کو ملنا۔ اصطبح الرجلُ: صبح کی شراب پینا۔ الصُّبْح جمع اَصْبَاح: دن کا پہلا حصہ۔ الصُّبْحَة: ناشتہ۔ و الصُّبْحَة: صبح کی نیند۔ الصَّبَاح: دن کا پہلا حصہ، شام کا مقابل، آپ کہتے ہیں۔ آتیه صباحَ مساءَ: میں اس کے پاس صبح شام آتا ہوں۔ اَتیتُهُ ذا صباح: میں اس کے پاس صبح کے وقت آیا۔ عِمْ صباحًا: تمہاری صبح خوشگوار ہو، یا تمہاری صبح عیش و آرام والی ہو، جب عرب کسی انسان وغیرہ سے براشگون لیتے تو کہا کرتے تھے۔ صَبَاحُ اللّٰهِ لا صباحُك۔ یومُ الصَّبَاح: لوٹ مار کا دن۔ الصَّبَاحِیَّة: سال نو کے دن بچوں کو دیا جانے والا تحفہ۔ جسے السَّنَوِیَّة کہا جاتا ہے۔ عوام کے نزدیک شادی کی رات کے بعد صبح کو دلہن کو دیا جانا والا تحفہ۔ الصُّبْحان م صُبْحَی جمع صُبَاحَی: صبح کی شراب پینے والا۔ رَجُلٌ صُبْحَان: جو صبح کی شراب پینے میں جلدی کرے۔ الصَّبُوح: صبح کے وقت کھائی یا پی جانے والی کوئی بھی چیز، صبح کے وقت دوہا ہوا دودھ کہتے ہیں۔ اَتیتُهُ ذا صَبُوح: میں اس کے پاس صبح کے وقت آیا۔ الصَّبِیحَة و الاُصْبُوحَة: صبح۔ المُصْبَح: صبح کا وقت، صبح کرنا، صبح کرنے کی جگہ۔ المِصْبَح: بڑا پیالہ۔ المِصْبَاح جمع مَصَابیح: بڑا پیالہ (صبح کی شراب پینے کا)

۲۔ صَبُحَ ـ صَبَاحًا و صُبْحَةً: روشن و چمکدار ہونا۔ ـــ الحدیدُ: لوہے کا چمکدار ہونا۔ صَبُحَ ـ صَبَاحَةً الوجهُ: چہرے کا چمکدار اور روشن ہونا۔ ـــ الغلامُ: لڑکے کا خوبصورت ہونا۔ صفت صُبَاح و صَبِیح۔ تَصَابَحَ: بتکلف خوبصورت بنا کہتے ہیں۔ فلانٌ یتصابح و یتحاسن: فلاں شخص بتکلف صاحب حسن و جمال بنتا ہے۔ غلام صُبَاح م صُبَاحَة جمع صِبَاح: خوبصورت (لڑکا لڑکی)۔ الصَّبِیح جمع صِبَاح م صَبِیحة جمع صِبَاح: خوبصورت، روشن چہرے والا۔ الصُّبْحَان م صُبْحَی جمع صُبَاحَی: خوبصورت چہرے والا۔ الصُّبَاحِیَّة: چوڑے نیزے۔ الصَّبَاحِیَة: حسن و جمال، خوبصورتی۔ المِصْبَاح جمع مَصَابیح: چوڑا نیزہ۔

۳۔ صَبِحَ ـ صَبَحًا و صُبْحَةً الشَّعْرُ: بالوں کا چمکدار ہونا۔ اِصْبَاحَّ اِصْبِیحَاحًا الشَّعْرُ: بالوں کا چمکدار ہونا۔ الصُّبْحَة: سرخی مائل سیاہ رنگ۔ الصُّبَاحِیّ: بہت سرخ رنگ خون۔ الاَصْبَح م صَبْحَاء جمع صُبْح: شیر، پیدائشی طور پر سرخی مائل سفیدی والے بال، سرخی مائل سیاہ رنگ کا۔ الثور الاصبح: دونوں آنکھوں کے درمیان سرخی مائل سیاہ رنگ والا بیل۔

۴۔ صَبَحَ ـ صَبْحًا عن الحق: حق ظاہر کرنا۔ اَصْبَحَ الحقُّ: حق ظاہر ہونا۔

۵۔ اَصْبَحَ المصباحَ: چراغ جلانا۔ اِصْطَبَحَ: چراغ روشن کرنا کہتے ہیں۔ الشمع ما یُصْطَبَحُ بہ: موم بتی روشن کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اِسْتَصْبَحَ الرجلُ: چراغ جلانا، روشن کرنا۔ الصُّبَاح م صُبَاحَة جمع صِبَاح: قندیل کا شعلہ۔ المِصْبَح: چراغ۔ المِصْبَاحُ جمع مصابیح: چراغ۔ مَصَابِیحُ النجوم: روشن ستارے جیسے سورج چاند وغیرہ۔

۶۔ أصبح زید عالماً: زید عالم ہوگیا۔

۷۔ صَبَحَ ـ صَبْحًا ہُ: کو صبح کا مشروب پیش کرنا۔ صَبُحَ ـ صُبَاحَةً: خوبصورت ہونا، حسین ہونا، خوش شکل ہونا، خوش انداز ہونا، دلکش ہونا۔ -- (چہرے کا) چمکنا، شگفتہ ہونا، چمکدار ہونا، روشن ہونا۔ صَبَّحَ ہُ: کو صبح کا مشروب پیش کرنا، کے پاس صبح کو آنا، ـــ ہ/علی: کے لئے اچھی صبح کی خواہش کرنا۔ یُصَابِحُهُ و یُمَاسِیهِ: وہ صبح شام اس پر توجہ کرتا ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ اَصْبَحَ: صبح میں داخل ہونا، صبح کرنا، بیدار ہونا، بیدار رہنا، اپنے حواس میں ہونا، واضح ہونا یا ہو جانا۔ صبح کو ہونا یا واقع ہونا۔ أصبح فی: ایک صورت حال میں پہنچ جانا، ایک حالت کو پہنچنا، کسی جگہ پہنچنا جہاں، ـــ: ہونا، بڑھنا۔ اصبح الصباحُ: صبح ہوگئی۔ أصبح علی الخیر: اچھی صبح والا ہونا، دن خوش خوش شروع کرنا۔ تُصْبِحُ علی خیر: رات کے وقت الوداعی کلمات، خدا کرے تم کل صبح بخیر ہو۔ یفعله اذا أصبح و یفعله اذا أمسی: وہ یہ صبح شام کرتا ہے، وہ ہمیشہ یا لگا تار یہ کرتا رہتا ہے۔ اَصْبَحَ الحقُّ: حق واضح ہوگیا۔ لَمْ یُصْبِح یفعل: اس نے یہ اس کے بعد نہیں کیا۔ لم یصبح له وجود: وہ اس کے بعد نہ رہا۔ اصطبح: صبح کا مشروب پینا۔ -- ہ کو (جیسے لیمپ کو) روشن کرنا، کو جلانا۔ ـ ب: کو روشن کرنے کے لئے استعمال کرنا۔ اِسْتَصْبَحَ: دن شروع کرنا۔ صُبْح جمع اَصباح: سویرا، تڑکا، فجر، طلوع صبح، طلوع سحر، صبح۔ صُبْحَة: صبح سویرے، ناشتہ۔ صَبَاح: صبح۔ صباحًا: صبح کو۔ صباحَ مَساءَ: صبح کو شام کو، صبح شام۔ صباحَ الیوم: آج صبح۔ صباحك بالخیر صباح بالخیر عِم صباحا: صبح بخیر۔ صباحِی: (صبح کا) صُباح و صَبْحَان م صُبْحَی: خوبصورت، حسین، دلکش۔ صبیح جمع صِباح: خوبصورت، حسین دلکش، پیاری شکل کا۔ صَبَاحَة: خوبصورتی حسن، جمال۔ صَبِیحَة: صبح۔ صَبُوح: صبح کا مشروب، صبح

سویرے کی طرح خوبصورت، چمکدار، روشن۔ مِصْباح جمع مَصَابِیح: لیمپ، روشن (مشہور شخصیت) (کار وغیرہ کی) سامنے کی بتی۔ مِصْبَاحُ الاضاءۃ: تاباں روشنی، روشنی کا بلب۔ مصباح کشاف: سرچ لائٹ۔ مصباح کَهربائی: بجلی کی روشنی، روشنی کا بلب۔ مصباح کهربائی یدوی: برقی فلیش لائٹ، بیٹری، ٹارچ، برقی مشعل۔ اصباح: صبح۔ اِسْتِصْبَاح: روشن کرنا۔ غاز الاستصباح: روشنی کرنے والا گیس۔ مُصْبَح: صبح۔

صبر: ۱۔ صَبَرَ ـِ صَبْراً علی الامر: کو بہادری سے برداشت کرنا صفت صَابِر و صَبِیر و صَبُور۔ صَبَّرَہُ: کو صبر کرنے کے لئے کہنا، صبر دلانا۔ صَابَرَ صِبَاراً و مُصَابَرَۃً ہُ: پر صبر میں غالب آنا۔ أَصْبَرَہُ: کو صبر کرنے کے لئے کہنا۔ تَصَبَّرَ: بناوٹی صبر کرنا۔ علیہ: پر صبر کرنا۔ اِصْطَبَرَ و اِصَّبَرَ علیہ: پر صبر کرنا۔ اصْبَارَ اصْبِیراراً علیہ: پر صبر کرنا۔ الصَّبْرُ: (مص) مصیبت کی شکوا شکایت کے بغیر برداشت، صبر اور حوصلہ۔ الصَّبْرَۃ: اسم مرۃ۔ الصَّبَّار: بہت صبر کرنے والا۔ الصَّبَّارَۃ: (اع) فوجی سپاہی جو کسی شہر یا کیمپ کے گرد گھات لگانے کی جگہوں میں ٹھہرے رہتے ہیں اور جب دشمن کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً اسکی اطلاع دے دیتے ہیں۔ اس کا اسم الصَّبْر ہے۔ الصَّبُور جمع صُبُر: بردبار۔ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ میں سے ایک اسم۔ بہت صابر۔ الصبیر جمع صُبَرَاء: صبر کرنے والا۔

۲۔ صَبَرَ ـِ صَبْراً عن الشیء: سے رکنا۔۔۔ الدابّۃَ: جانور کو بلا چارہ کے باندھے رکھنا۔۔۔ ہُ: کو مجبور کرنا، لازم ٹھہرانا۔ ہ عَنِ الامر: کو سے روکنا۔ صبرتُ نفسی عن کذا: میں نے کسی بات سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ صبرتُ علی ما أکرہ و صبرت عما أحب: میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے باز رکھا جو میں پسند نہیں کرتا اور جو چیز مجھے پسند ہے اس سے رکا رہا۔ صَبْرُ المَیِّتِ: مردہ کے پیٹ میں ایلوا رکھنا تاکہ وہ سڑ نہ جائے۔ أَصْبَرَ: شیشی کو ڈاٹ لگانا۔۔۔ القاضی فلاناً: قاضی کا مخالف سے بدلہ دلانا۔ اِصْطَبَرَ و اَصْبَرَ منہ: سے بدلہ لینا۔ الصَّبْرُ: (مص) کہتے ہیں۔ قُتِل صبراً: یعنی اسے قتل ہونے تک محبوس رکھا گیا۔ حلف صبراً: اسے حلف اٹھانے تک محبوس کیا گیا۔ یمین الصَّبْر: قید کرکے لی گئی قسم۔ شهرُ الصَّبْرِ: رمضان کا مہینہ۔ الصَّبْر جمع أصْبَار: برف۔ الصِّبَار: کارک، ڈاٹ۔ الصَّابُورۃ: کشتی جہاز وغیرہ میں رکھا ہوا بوجھ جس کی وجہ سے ایک طرف نہ جھکے۔ المَصْبُورۃُ من الرِجال: قتل کئے جانے کے لئے قید کیا گیا شخص۔ المَصْبُور: قتل کے لئے قید کیا ہوا شخص۔ المَصْبُورَۃ: مصبور کا مونث، قسم۔

۳۔ صَبَرَ ـُ صَبْراً و صَبَارَۃً بہ: کا ضامن بننا۔۔۔ ہُ: کو ضامن دینا کہتے ہیں۔ اصْبُرْنی: مجھے ضامن دو۔ الصَّبَارۃ: ضمانت۔ الصَّبِیر جمع صُبَرَاء: ضامن، قوم کا مکھیا اور چودھری۔

۴۔ صَبَّرَ الکأسَ: پیالہ کو کناروں تک بھرنا۔ اِسْتَصْبَرَ الشیءُ: کثیف ہونا، کا ڈھیر لگنا۔ الصُّبْرُ جمع أَصْبَار: چیز کا کنارہ طرف۔ سفید بادل کو کہتے ہیں۔ اخذ الشیء بأَصْبَارِہ: اس نے چیز پوری پوری لے لی۔ ملأ الکأسَ الی اِصبارها: اس نے پیالہ کناروں تک بھر دیا۔ الصُّبْرُ جمع أَصْبَار: بمعنی الصِبر۔ والصُّبُر: کنکریلی زمین جو سخت نہ ہو۔ الصُّبْرَۃ جمع صِبَار: غلہ کا انبار (اَخَذَہُ صُبْرَۃً: اس نے اس کو بے ماپے تولے سب کا سب لے لیا) سخت پتھروں کا ڈھیر۔ الصَبارۃ و الصُّبَارۃ: چکنے پتھر۔ الصَّبَارۃ: بنجر سخت زمین۔ الصبیر جمع صُبَرَاء: پہاڑ۔ والصَّبِیرۃ: چوڑی روٹی۔ الصَّابُورِیَّۃ: (ب) مٹی وغیرہ ڈھونے کے لئے اوپر سے چوڑی نیچے سے تنگ ٹوکری۔ المَصْبُورم مصبورۃ: قتل کے لئے قید کیا ہوا، ڈھیر لگایا ہوا۔

۵۔ أَصْبَرَ اللبنُ: دودھ کی کھٹاس کا تیز ہو کر کڑواہٹ تک پہنچنا۔ الشیءُ: ایلوے کی طرح کڑوا ہونا۔ الصَّبِر جمع صُبُور واحد صَبِرۃ جسے المَقْر اور المَقِر بھی کہتے ہیں۔ ایلوا، ابو صابر: نمک۔ الصُّبَار والصُّبَّار: املی۔ الصِبار: ترش درخت کا پھل۔

۶۔ أَصْبَرَ الرجُلُ: مصیبت میں پڑنا۔ اِسْتَصْبَرَ الشیءُ: سخت ہونا۔ الصَّبْرَۃ: سردی کی شدت۔ صَبْرَۃُ الشتاء: سردی کا درمیانی زمانہ۔ موسم سرما کا وسط۔ الصَّبَارۃ الصَّبَارۃ: سردی کی شدت۔ اُمُّ صَبَّار وام صَبُّور: مصیبت۔

۷۔ الصَّبَّار: (ن) ایک پودا۔۔۔ والصُّبَیْر: (ن) ایک پودا۔

(۸) صَبَرَ ـِ صَبْراً ہُ: کو باندھنا، بیڑی پہنانا، کو بیڑیاں ڈالنا، روکنا، پر پابندی لگانا۔۔۔ صابر ہونا، برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا۔۔۔ علی: کو خاموشی سے، صبر سے، مضبوطی سے برداشت کرنا، کو بھگتنا، جھیلنا، سہنا۔ صبر عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، اجتناب کرنا، علیحدہ ہونا، جدا ہو جانا، دستبردار ہونا، کو چھوڑ دینا۔ ل: کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کے مقابلہ میں جما رہنا۔ صَبَّرہ: کو صبر کرنے کے لئے کہنا، کو فہمائش کرنا، نصیحت کرنا کہ وہ صبر کرے۔۔۔ ہ: (دل کو) تسلی دینا، تشفی دینا، دلاسا دینا، کی دل جوئی کرنا۔۔۔ ہ: کو پائیدار بنانا، دیرپا بنانا، کا تحفظ کرنا، بچائے رکھنا، محفوظ رکھنا، کو ڈبوں میں بند کرنا۔ بطنہُ: ہلکا کھانا کھانا۔ صابَرہُ: سے صبر و استقامت میں مقابلہ کرنا، مضبوطی سے برداشت کرنا۔ تَصَبَّرَ: صبر کرنا، برداشت کرنا، سہنا، ثابت قدم رہنا۔ اصطبر بمعنی تَصَبَّرَ۔ قتلہ صبراً: کو حراست کے دوران قتل کرنا۔ لا صبر لی: میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، یہ ناقابل برداشت ہے۔ قلۃ الصبر: بے صبری، بے تابی۔ قلیل الصبر و قلّ صبرُہُ: بے صبر، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے والا۔ لم یَبْقَ فِی قوسِ صبری مِنْزَع: میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ صَبْر: بیڑیاں ڈالنا، صبر و تحمل، اطمینان، سکون، دلجمعی، استقلال، ثابت قدمی، مضبوطی، ضبطِ نفس، جذبات پر قابو، ٹھنڈا مزاج، استقلال، ثابت قدمی، صبر، برداشت، حوصلہ۔ صَبِر و صَبْر ایلواء (aloe) صُبْرَۃ: ڈھیر۔ صُبْرَۃً: بحیثیت مجموعی، سارا ایک ہی بار۔ صَبّار: بہت صابر، برداشت کرنے والا، ثابت قدم۔ صُبَّار و صُبَّارِ: املی۔ صُبَیَّر: املی۔ صَبُور جمع صُبُر: (بہت) صابر، برداشت کرنے والا، ثابت قدم۔ صَبَارَہ و صَبَارَۃ: سخت سردی۔ تصبیرۃ: قبل از دوپہر ہلکا کھانا، معمولی کھانا۔ مُصَابَرَۃ و اصطبار: برداشت، صبر، استقلال، ثابت قدمی، صابر۔ مُصَبَّرات: مربہ جات، ڈبوں میں بند کھانے پینے کی اشیاء۔ صَبَّر ہ: (بحری جہاز وغیرہ) میں توازن قائم رکھنے کے لئے بھرائی کرنا۔ صابُورۃ: جہاز کی بھرائی، بوجھ (توازن قائم رکھنے کے لئے)

صبع: ۱۔ صَبَعَ ـَ صَبْعاً بہ و علیہ: کی طرف انگلی سے اشارہ کرکے بتانا۔ فلاناً علیہ: کو اشارہ سے کے متعلق بتانا، پتہ دینا۔ صَبْعاً و مَصْبَعَۃً ہُ: کی انگلی پر مارنا۔۔۔ الشیءَ: میں اپنی انگلی ڈالنا۔۔۔ بین القوم: غیر کو قوم کا پتہ دینا۔۔۔ فی الطعام: کھانے میں انگلی ڈالنا۔ الأُصْبُع والإِصْبَع والأُصْبَع والأَصْبُع والأِصْبِع والأَصْبَع والإِصْبِع والأُصْبِع جمع أَصَابِع: (ع) (اع) انگلی۔ مونث ہے، کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ علی ماشیتہ اصبع: چرواہے کے مویشی پر خوبصورتی کا اثر ہے کہ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا

ہے۔ اصابع الید: ہاتھ کی انگلیاں (ابہام، سبّابۃ، وسطیٰ، بنصر خنصر) الاُصْبُوع جمع اَصَابِیع: انگلی۔ المُصَبَّع: سیخ (گوشت بھوننے کی)

۲۔ صَبَعَ ۔ صَبْعًا و مَصْبَعَةً ہٗ: کو (متکبر) بنانا۔ من ولاہ السلطان صبعه الشیطان: بادشاہ جس کو حاکم بناتا ہے شیطان اسے متکبر بنا دیتا ہے۔ (شیطان اس میں تکبر کی روح پھونک دیتا ہے) المَصْبَعة: تکبر۔ المَصْبُوع: متکبر۔

صَبَعَ ھا: (مرغی میں انگلی چبھونا تا کہ معلوم کیا جائے کہ کیا وہ انڈا دینے والی ہے) اِصْبَع جمع اَصَابِع و اصبع القدم: انگلی (ہاتھ یا پاؤں کی) سادہ پیمائش: 3.125 سینٹی میٹر۔ اصابع من البطاطس: (تلے ہوئے آلو (فرانسیسی) بَصْمَةُ الاصابع: انگلیوں کا نشان۔ طابع الاصابع: انگلیوں کا نشان۔ له اِصْبَع فی هذا الامر: اس معاملہ میں اس کا ہاتھ ہے۔ صُبَاع: انگلی۔ صباع و صُباع القدم: پاؤں کی انگلی۔ اُصْبُوع جمع اصابیع: انگلی (ہاتھ یا پاؤں کی) مُصَبَّع: گرل (grill)

صبغ: ا۔ صَبَغَ ۔ صَبْغًا و صِبَغًا الثوبَ: کپڑے کو رنگنا کہتے ہیں۔ صبغونی فی عینك: انہوں نے آپ سے میرے متعلق بری بات کر کے مجھے آپ کی نظر میں وہ شخص بنا دیا جو میں نہیں ہوں۔ ـــ صُبُوغًا ضرع الناقة: اونٹنی کے تھن کا بھرنا اور خوش رنگ ہونا۔ صَبَّغَ: صبغ کا مبالغہ ـــ و اَصْبَغَ النخلُ: کھجور کا پکنے لگنا۔ اصطَبَغَ بکذا: سے رنگین ہونا۔ الصِبَغ و الصِبْغ جمع اَصْبَاغ و الصِبَاغ جمع اَصْبِغَة و الصِبْغَة: رنگ۔ الصُبْغَة: کچی پکی کھجور۔ الصِبَاغة: رنگریزی۔ الصَبَّاغ: رنگریز، رنگنے والا، جھوٹا۔ الأَصْبَغ من الطیر و الشاء م صَبْغَاء جمع صُبْغ: سفید دم کا پرندہ یا بکری۔ من الخیل: وہ گھوڑا جس کی پیشانی یا کان کے اطراف سفید ہوں۔ الصَبِیغ: رنگا ہوا۔ کہتے ہیں۔ ثوبٌ صَبِیغ وثیابٌ صَبِیغ: رنگا ہوا کپڑا، رنگے ہوئے کپڑے۔ المَصْبَغَة: رنگنائی کا کارخانہ۔ جگہ جہاں رنگائی کا کام کیا جاتا ہو۔

۲۔ صَبَغَ ۔ صَبْغًا و صِبَغًا یدہ فی الماء: پانی میں ہاتھ ڈبونا۔ یدَہ بالعمل: کام میں مشغول ہونا۔ فلانًا فی النعیم: کو نعمتوں میں غرق کرنا۔ ہٗ بالماء: کو پانی سے بپتسمہ دینا۔ اصطبغ: بپتمہ لینا۔ اَصْبَغَ علیه النعمةَ: کو کامل نعمت سے نوازنا۔ تَصَبَّغَ فی دینه: کسی پر دین کا رنگ اچھی طرح چڑھنا اور مذہب میں پختہ ہونا۔ اِصْطَبَغَ بالصِبْغ ای الادام: سالن سے روٹی کھانا، کہتے ہیں۔ اصْطَبَغَ بالخلّ او فی الخلّ: اس نے سرکہ کو سالن بنا لیا۔ الصِبْغ: سالن، جیسے سرکہ، تیل۔ الصِبْغَة: نوع، بپتمہ، اصطباغ، ملت، دین۔ (الصبغه عام بول چال میں) الصابِغ (فا) بپتسمہ دینے والے یوحنا کا لقب۔ الأَصْبَغ م صَبْغَاء جمع صُبغ: بڑا سیلاب۔

○ صَبَغَ ۔ صَبْغًا و صِبَغًا ہ ب: کو کا انداز، کی چاشنی یا ہلکا سا اثر یا شکل دینا۔ صبغه صِبغَةً اخری: کی کایا پلٹنا، کو قلب ماہیت کرنا، تبدیل کر کے کچھ اور بنا دینا۔ اصْطَبَغ: رنگا جانا، رنگین ہونا، بپتسمہ دیا جانا، بپتسمہ لینا۔ صِبْغ جمع أَصْبَاغ: رنگ، رنگ تیار کرنے کی چیز، رنگ کا کوٹ، وارنش، میک اپ، گریس پینٹ، چہرے کا روغن۔ صِبْغَة: رنگ، ٹنکچر (Tincture) جھلک۔ شائبہ، انداز، ہلکا سا روپ، کچھ، قدرے، تھوڑا سا نازک فرق، طبیعت، کردار، پینٹ۔ (کا کوٹ) (Coat of paint) وارنش، بپتسمہ، دین۔ صبغة الافیون: افیون کی ٹنکچر۔ صبغة الیود: آیوڈین کی ٹنکچر۔ صِبْغَةٌ مَحَلِّیَة: لوکل ٹچ، لوکل کلر۔ اخرجه من صبغته: کسی شخص یا چیز کو تبدیل کرنا، کی شکل یا صورت بگاڑنا۔ صِبَاغ جمع اَصْبِغَة: رنگ، رنگ تیار کرنے کی چیز، مسالہ، چٹنی۔ صابغ: رنگنے والا، بپتسمہ دینے والا۔ مَصْبُوغ: رنگا ہوا۔ ب: جس میں کی جھلک ہو، جو بو سے متاثر ہو، جس کو کا رنگ چڑھا ہوا ہو، جس کے رگ و پے میں کچھ جاری و ساری ہو۔

صبن: ا۔ صَبَنَ ۔ صَبْنًا الشیءَ عنه: کو سے روکنا، باز رکھنا، کو دوسری طرف پھیر دینا۔ اِنْصَبَنَ و اصْطَبَنَ عَنْهُ: سے پھر جانا۔

۲۔ صَبَنَ ۔ صَبْنًا المقامرُ الکعبین: جواری کا پانسہ ہاتھ میں کر کے پھینکنا۔

۳۔ التَصَبُّن (ك): کیمیائی عمل جس میں نمکین ایتھر اور پانی کے باہمہ گرعمل سے سپرٹ اور ایسڈ کی تخلیق ہوتی ہے اسے تصبن کا نام دینے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس قسم کے باہمہ گیر عمل کے ذریعہ صابن بنایا جاتا ہے۔ الصابون: صابن، صابن کی ایک ٹکیہ کو صابونۃ کہتے ہیں۔ یہ فارسی لفظ ہے۔ عربی میں اس کا مقابل غاسول ہے۔ الصبّان و الصابونی: صابن بنانے یا بیچنے والا۔ الصابونیة: (ن) ایک پودا جس کی جڑیں زمانہ قدیم میں کپڑے دھونے کے لئے استعمال کی جاتی تھیں۔ المَصْبَنَة: صابن بنانے کا کارخانہ۔

○ صَبَّنَ ہ: کو صابن سے دھونا، رگڑنا۔ صابون: صابن حجر الصابون: سوپ سٹون (Soap Stone) صابونه: صابن کی ٹکیہ۔ صابونی: صابن کا سا، صابن کا بنا ہوا۔ صَبَّان: صابن کا بائلر Soap boiler۔

صبا: ا۔ صَبَا ۔ صَبْوَةً و صُبُوَّةً و صُبُوًّا الیه وله: کا مشتاق ہونا۔ صَبِیَ یَصْبَی صَبًا الیه: کا مشتاق ہونا۔ أَصْبَی الشیءُ فلانًا: کسی چیز کا کسی کو اپنا شوقین بنانا کہتے ہیں۔ أَصْبَتْهُ المکارمُ: عالی ظرف خصوصیات نے اسے اپنا گرویدہ کر لیا۔ تَصَبَّی تَصَبِّیًا المرأةَ: عورت کو فریب دینا، فریفتہ کرنا۔ ہ الشیءُ: کسی چیز کا کسی کو شوق میں ڈالنا، گرویدہ کرنا۔ تَصَابَی تصابِیًا المرأةَ: عورت کو فریب دینا فریفتہ کرنا۔ اسْتَصْبَی الیه: کا مشتاق ہونا۔ الصِبَاء: شوق۔

۲۔ صَبَا ۔ صُبُوًّا و صُبُوًّا و صِبًا و صَبَاءً: بچپن کی طرف مائل ہونا، بچوں کی خصلت والا ہونا، صفت صَابٍ مونث صَابِیَه۔ صَبِیَ یَصْبَی صَبَاءً: بچوں جیسے کام کرنا۔ أَصْبَی الرجُلُ: بچہ والا ہونا۔ تَصَبَّی تَصَبِّیًا و تَصَابَی تَصَابِیًا: کھیل کود کی طرف مائل ہونا۔ اسْتَصْبَی: بچوں کا سا کام کرنا۔ ہٗ: سے بچے کی طرح پیش آنا۔ الصِبَا و الصَبَاء: بچپن کہتے ہیں: رأیتُهُ فی صِباہ او فی صَبَائِه: میں نے اسے اس کے بچپن میں دیکھا تھا۔ الصَبْوَة: بچپنا پن۔ الصَبِیّ جمع صُبْیَان و صِبْیَان و صُبْوَان و صِبْوَان و اَصْبِیَة و صِبْیَة و صَبْیَة و صُبْیَة و صِبْوَة و اَصْبٍ م صَبِیَّة جمع صَبَایَا: بچہ، جس کا دودھ ابھی نہ چھڑایا گیا ہو۔ الصَبِیة: لڑکی۔ الصُبَیَّة والأُصَیْبِیَة: صبیۃ و اَصْبِیَة: کی تصغیر (صَبِیّ کی جمعیں) امرأة مُصْبِیَة و مُصْبٍ: بچہ والی عورت۔

۳۔ صَبَا ۔ صَبَاءً و صُبُوًّات الریحُ: پروائی ہوا چلنا۔ صُبِیَ و أُصْبِیَ القومُ: کو پروائی ہوا لگنا۔ الصَبَا (مص) تثنیہ صَبَوان و صَبَیَان جمع صَبَوَات و اَصْبَاء: پروائی ہوا (مونث) اس کی مقابل ہوا الدبور کہلاتی ہے۔ الصَابِیَة: شمال مشرقی ہوا۔ صَابَی مُصَابَاةً رمحَهُ: نیزہ کو مارنے کے لئے جھکانا۔ السیفَ: تلوار کو میان میں الٹی طرف کرنا، الٹانا اور جھکانا۔ الکلامَ: بے قاعدہ بولنا۔

۵۔ الصَبِیُّ: تلوار کی دھار، پاؤں کا پنجہ کہتے ہیں۔ بہ وجع فی صَبِیّ قدمه: اس کے پاؤں کے پنجہ میں درد ہے۔ الصَبِیَّان: ٹھوڑی کے قریب داڑھی کے کنارے۔

○ صَبَا ۔ صُبُوًّا و صُبُوًّا و صِبًا و صَبَاءً: بچہ ہونا

(مزاج میں) بچوں کا سا ہونا ــــ صَبْوًا و صَبْوَةً الــی: کی طرف پھرنا، کی طرف جھکنا، مائل ہونا، کی رغبت محسوس کرنا، کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا۔صَبِــیَ - صَبَــاءً و صِبًا: بچہ کی طرح پیش آنا، بچوں جیسا رویہ اختیار کرنا، کام کرنا۔تَصَبَّی: بچہ جیسا برتاؤ کرنا بچوں جیسا رویہ اختیار کرنا، کھیل کود کی طرف مائل ہونا، دوبارہ نو جوان ہو جانا، دوبارہ جوان بننا، اعادہ شباب سے گزرنا، دوبارہ جوانی حاصل کرنا ــــ ھا: (عورت) سے معاشقہ کرنا، عشق بازی کرنا ــــ ہ / ہا: کسی کو (یا دِل کو) آکسانا، ترغیب دینا، ورغلانا، سلانا، لبھانا، موہ لینا، فریفتہ کرنا، شیفتہ کرنا۔صَبَــا جمع صَبَــوَات و اصْــبَاء: مشرقی ہوا، پروا۔صِبَــاً و صِبــیً: بچپن، لڑکپن، جوانی شباب، رجحان، میلان، رغبت، شوق، آرزو، خواہش، تمنا۔صبا: بچپن، لڑکپن، جوانی، شباب۔ صَبْوَة: جوانی کا شوق، عاشقانہ مزاج، شوق طبیعت، شہوانی خواہش، بچوں جیسے اخلاق و عادات۔صُبُــوّ: جوانی کا شوق، عاشقانہ مزاج، شہوانی خواہش، بچوں جیسے اخلاق و عادات۔صُبُوَّة: بچپن، لڑکپن، جوانی، شباب۔صَبِــیّ جمع صِبْیَة و صَبْیَة و صِبیــان و صُبیــان و أصْبِیَة: لڑکا، جوان۔صَبِیَّة جمع صَبَــایــا: لڑکی۔صِبیــانــی: طفلانہ، بچوں کا سا (مزاج میں) بچپن والا، بچپنا، احمقانہ، بچوں کا۔صَــابٍ: جوان، کم سن، نوعمر، نابالغ، بے پروا، غافل، جلد باز، غاقبت نا اندیش۔

صت: ا۔صَتَّ - صَتًّا ہُ: کو زور سے دھکیلنا، ہاتھ سے مارنا۔بکلام او بداھیة: پر تہمت لگانا، یا مصیبت ڈالنا۔صَاتَّ مُصَاتَّةً و صِتَاتًا ہُ: سے جھگڑنا۔ تَصَاتَّ القومُ: آپس میں لڑنا، جھگڑنا۔الصِتّ والصُتَّة: ضد ہٹ۔الصَتِیت: آواز، شور۔

۲۔ الصَتُّ والصِتّ والصُتَّة: جماعت گروہ آپ کہتے ہیں: رأیت صَتًّا من الناس: یعنی میں نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا۔الصَتَت: درپے کہتے ہیں۔ھو بصَتَتِهِ: وہ اس کے درپے ہے۔الصَتِیت: جماعت، گروہ۔المُصْتِیت: کاموں میں مستعد و چست۔

صتع: صتع - صَتْعًا ہُ: کو پچھاڑنا۔تَصَتَّعَ: کسی کام میں تردد کرنا۔الصَتَع: قوی نوجوان (ج) گورخر۔

صتم: صَتَّمَ الشیءَ: کو مکمل کرنا۔تَصَتَّمَ: تیز دوڑنا۔الصُتْم والصَتَم: سخت مضبوط، خوب مضبوط آپ کہتے ہیں: اَلْفٌ صُتْمٌ: پورا ہزار۔الصُتْمة و الصَتِیمة: سخت چٹان۔المُصَتَّم (مفع): بند گلی یا وادی۔

صجّ: صَجَّ - صَجًّا: لوہے کو لوہے پر مارنے سے آواز نکلنا۔الصُجُج والصجیج: لوہے پر لوہے کے پڑنے کی جھنکار۔

صحّ: ا۔صَحَّ - صُحًّا و صِحَّةً و صَحَاحًا: تندرست ہونا، بیماری کا جاتا رہنا۔الشیءُ: چیز کا ہر عیب سے بری اور سالم ہونا۔صَحَّحَ المریضَ: بیمار کی بیماری دور کرنا، بیمار کو صحت یاب کرنا۔ الکتابَ: کتاب کی غلطی کو ٹھیک کرنا۔أصَحَّ اصْحَاحًا ہُ: کو تندرست کرنا یا پانا، کی بیماری دور کرنا۔الرجُلُ: آدمی کے بال بچوں یا اسکے مویشی کا تندرست ہونا۔تَصَحَّحَ بکذا: کسی چیز سے علاج کرنا۔اِسْتَصَحَّ من مرضه: تندرست ہونا۔الصِحَّة (مص) صحت، تندرستی۔الصحیح جمع أصِحَّاء و صِحَاح و أصِحَّة و صَحَائِح: تندرست، عیب وغیرہ سے پاک۔المَصَحّ جمع مَصَاحّ و مَصَحَّات: جائے صحت، ہسپتال (تپ دق کے مریضوں کا) المَصَحَّة والمِصَحَّة: صحت بخش یا محافظ صحت کہتے ہیں۔الصومُ مِصَحَّة: روزہ صحت بخش ہے یا صحت کا محافظ ہے۔ارضٌ مصحَّةٌ: وبائی امراض سے پاک زمین، یا وہ زمین جہاں بیماریاں کم ہوں۔

۲۔ صَحَّ - صُحًّا و صِحَّةً و صَحَاحًا الخبرُ: خبر کا مطابق واقع ثابت ہونا یعنی درست ہونا۔صفت صحیح و صَحَاح کہتے ہیں۔صَحَّ لی علی فلان کذا: فلاں کے خلاف میری بات درست نکلی۔اِسْتَصَحَّ الکلامَ: بات کو صحیح پانا۔الصَحیح جمع أصِحَّاء و صِحَاح و اَصِحَّة و صَحَائِح: قابل اعتماد۔الاصْحَاح والأصحاح من التوارة والانجیل: توات یا انجیل کا ایک باب۔

۳۔ الصَحَاح من الطریق: دشوار راستہ۔

۴۔ صَحْصَحَ الامرُ: ظاہر ہونا۔الصَحْصَح و الصَحْصَحَان جمع صَحَاصِح: نباتات سے خالی ہموار زمین۔التُرَّهات الصَحَاصِح و تُرَّهاتُ الصحاصِح: خرافات زٹلیات۔الصُحْصُح والصُحْصُوح من الرجال: باریک بین آدمی۔ المُصَحْصِح: سچی محبت رکھنے والا، بیہودہ گو۔

صحب: ا۔صَحِبَ - صُحْبَةً و صَحَابَةً و صِحابَةً و صَاحَبَ مُصَاحَبَةً ہُ: کا ساتھی ہونا، دوست ہونا کے ساتھ زندگی گزارنا۔أصْحَبَ الرجُلُ: ساتھی والا ہونا، کے بیٹے کا بالغ ہو کر اپنے جیسا ہونا، بدقت مطیع و فرمانبردار ہونا کہتے ہیں۔أصْحَبُهُ فھو مُصْحَبٌ: میں نے وہ کام کیا جس سے وہ میرا ساتھی بن گیا اور اس نے مجھ سے کنی کترانا چھوڑ دیا۔ہُ الشیءَ: کو کیساتھ کر دینا ــــ الزقَّ: مشک پر بال چھوڑ دینا۔ تَصَاحَبَ الرجلان: باہم سفر کرنا۔معه: کو ساتھی بنانا (عام بول چال) اِصْطَحَبُوا: ایک دوسرے کے ہمراہ ہونا۔اِسْتَصْحَبَ ہُ: کا ساتھی بننا، کو ساتھی بننے کے لئے کہنا، کو ساتھی بنانا ــــ ہُ الشیءَ: کسی چیز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لئے کہنا۔ الشیءَ: کو ساتھ کر دینا۔ الصاحِب (فا) جمع صَحْب و أصحاب و صُحْبَة و صِحَاب و صُحْبَان و صِحَابَة و صَحَابَة و أصَاحِیب أصحاب کی جمع: ساتھی، ساتھ زندگی گزارنے والا، گورنر وزیر۔صَاحِ: کہتے ہیں یا صاحِ یعنی اے ساتھی۔الصَاحِبَة جمع صَاحِبَات و صَوَاحِب: صاحب کا مونث۔بیوی۔الصحابة: نبی کریم ﷺ کے وہ ساتھی جنہوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا اور آپ کی صحبت میں رہے۔الصَحَابی: صحابہ کی طرف منسوب، ایک صحابی۔ المُصَاحِب (فا): ساتھ رہنے والا، دشواری سے مطیع و فرمانبردار ہونے والا۔المُصْحَاب: مطیع، فرمانبردار۔ المُصْحَب (مفع): اپنے آپ سے باتیں کرنے والا پاگل۔عودٌ مُصْحَب: وہ لکڑی جس کا چھلکا نہ اتارا گیا ہو۔ادیمٌ مَصْحُوبٌ: چمڑا جس کی اون یا بال نہ اتارے گئے ہوں۔المُصْحِب: مطیع، فرمانبردار۔ ادیمٌ مُصْحِب: چمڑہ جس پر اون اور بال ہوں۔ عودٌ مُصْحِب: نہ چھیلی ہوئی لکڑی۔ادیم مَصْحُوب: چمڑا جس سے اون یا بال نہ اتارے گئے ہوں۔عودٌ مَصْحُوب: نہ چھیلی ہوئی لکڑی کہتے ہیں: اذْهَبْ مَصحُوبًا و مُصَاحَبًا: صحیح سالم جاؤ۔

۲۔ صَحَبَ - صَحْبًا المذبوحَ: ذبیحہ کی کھال کھینچنا۔

۳۔ أصْحَبَ فلانًا: کو محفوظ رکھنا ــــ ہُ عن کذا: کو سے منع کرنا، روکنا۔اصْطَحَبَ فلانًا: کی حفاظت کرنا۔ صاحبُ الشیء جمع صَحْب و أصحاب و صُحْبَة و صِحَابٌ و صُحبان و صِحابَة و صَحَابَة واصحاب کی جمع أصاحیب: (چیز) کا مالک مثلاً کہتے ہیں: صاحبُ حماة: حمات کا حاکم (گورنر)

۴۔ أصْحَبَ الماءُ: پانی کا کائی والا ہونا۔

۵۔ تَصَحَّبَ منه: سے شرم کرنا، حیا کرنا کہتے ہیں۔فلانٌ ما یتصَحَّب من شیء: فلاں شخص بالکل شرم و حیا نہیں کرتا۔

صَحَّ علی: پر لاگو ہونا، کے حسب حال ہونا، سے متعلق ہونا، پر منطبق ہونا، پر صادق آنا۔عــن: سے نتیجہ نکلنا ہے کہ۔ صح لہ کے لئے ایک حقیقت ہونا۔

صحّ: حقیقت بن جانا۔ ل: کے حصہ میں آنا۔
صحت عزیمته علی او صحّ عزمه علی: اس کا پختہ ارادہ تھا کہ اس کا ارادہ تھا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یصح الاعتماد علیه: یہ اسکی بنیاد کا کام دے سکتا ہے۔ یصح ان یقال فیه: یہ اس کے بارے میں صحیح کہا جاتا ہے کہ...... صحّ فی الاذهان: درست کافی، معقول نظر آنا۔ وزارة الصحة العمومية: وزارت عمومی صحت۔ المَحجر الصحّي: قرنطینہ۔ صحیحٌ اسه یہ درست ہے کروہ۔ او علی الاصح: یا زیادہ مناسب یہ کہنا ہوگا کہ المُصحّح اسفلهُ: زیر دستخطی۔ صحبة هذا: اس کے ساتھ منسلک ہے۔ صاحب الامر: حاکم صاحب البواخر: جہازوں کا مالک۔ صاحب الجلالة: ہز مجیسٹی، اعلیٰ حضرت، جہاں پناہ، ولی نعمت۔ جلالۃ الملک۔ صاحب الدولة: وزیر اعظم کا لقب (سابق) صاحب الدَّین: قرض خواہ۔ صاحب الرِفعة: وزیر اعظم کا لقب (سابق) صاحب السّجادة: سجادہ نشین۔ صاحب السعادة: پاشا کا لقب۔ صاحب السماحة: صاحب امتیاز۔ صاحب السمو الملكي: اعلیٰ حضرت، والاحضرت شاہ۔ اصحاب الشان: متعلقہ لوگ، اہم با اثر لوگ۔ اصحاب الشُبُهات: مشکوک لوگ، بدنام لوگ۔ صاحبُ العِزہ: بے کا لقب۔ صاحب العظمة: ہز مجیسٹی۔ صاحب المعالي: کیبنٹ کے وزیر کا لقب۔ صاحب العمل: ملازم رکھنے والا۔ صاحب الغبطة: سردار قبیلہ کا لقب۔ صاحب الفضيلة: علماء دین اور شیوخ کا لقب جیسے الازہر یونیورسٹی کا ریکٹر (پرنسپل، وائس چانسلر) یا پروفیسر صاحبان۔ صاحب الفكرة: کسی رائے کا مُختَرِع یا موجد۔ صويحبة جمع صويحبات: سہیلی۔ مَصحُوب ب: کے ساتھ منسلک، نتھی، بھیجا جانے والا، کے ساتھ مہیا و فراہم کردہ۔

صحر ۱۔ صَحَرَ - صَحرًا اللبنَ: دودھ ابالنا، پکانا۔ الصَحيرة: ابلا ہوا دودھ، جسے بعد میں گھی اور آٹے پر انڈیلا جاتا ہے۔
۲۔ صَحَرَ - صَحرًاتهُ الشمسُ: دھوپ کا دماغ کو تکلیف دینا۔
۳۔ صَحَرَ - صَحِيرًا و صُحارًا الحمارُ: گدھے کا زور سے رینکنا۔
۴۔ صَحِرَ - صَحَرًا: سرخی مائل مٹیالا رنگ ہونا۔ صفت: أصحرم صَحراءُ جمع صُحر۔ اِصْحارّ اصحِیرارًا: سرخی مائل مٹیالے رنگ والا ہونا۔ الصَحَر و الصُحرة: سرخی مائل مٹیالا رنگ۔ المُصحِر (ح) شیر۔
۵۔ أصحَرَ: صحراء کی طرف نکلنا۔ المکانُ: جگہ کا وسیع و کشادہ ہونا۔ الأمرَ و بالامر: کو ظاہر کرنا کہتے ہیں۔ لاتُصحِرهُ أمرك: یعنی اپنا معاملہ اس پر ظاہر نہ کر۔ أصحِر مافی قلبك: جو بات تیرے دل میں ہے اسے ظاہر کر۔ الصحراء جمع صَحَارَى و صَحَارٍ و صَحَارَى و صحراوات: بیابان جس میں نبات نہ ہو۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس میں خربوزے، تربوز، کھیرے ککڑیاں وغیرہ بوئی گئی ہوں۔ اس کا تلفظ اکثر "ۃ" سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے "صحرة البطيخ": (خربوزوں کا باڑہ) عام بول چال کا لفظ ہے۔ المُصاحِر: اپنے مقابل سے بیابان میں لڑنے والا اور اسے دھوکا نہ دینے والا۔
۶۔ أصحَرَ الرجُلُ: کانا ہونا۔
۷۔ الصَحرة عند العامة: رات کے وقت، بحری جہاز سے پھیلنے والی رطوبت۔ الصَحراوِيّة: ایک پودا۔
○ اصحرم صحراء: ریگستان جیسا، ریگستان کی ریت کے رنگ کا، سنسان، اجاڑ، بے رنگ بے کیف، بے لطف۔ صحراء جمع صَحَارٍ و صَحَارَى و صحراوات: ریگستان، بیابان، لق ودق صحرا، سرد صحرا۔ صحراوی: ریگستانی، صحرائی، سنسان اجاڑ، بنجر۔ اراضی صحراوية: صحرائی، ریگستانی علاقے۔ صَحّارة جمع صحاحير: ڈبہ، صندوق، پیٹی، کریٹ۔

صحف: ۱۔ صَحَّفَ الكلمةَ: کوئی لفظ وغیرہ غلط پڑھنا یا لکھنا یا توڑ مروڑ کر بیان کرنا۔ اَصحَفَ الكتابَ: کتاب میں صحیفوں کو جمع کرنا۔ تصحَّفَ القارِئُ: غلط پڑھنا کہتے ہیں: تصحفت عليه الصحيفةُ: اخبار میں لفظ تبدیل ہو گیا یا غلط پڑھا گیا، یا غلط لکھا گیا۔ الصِحافة: اخبار نویسی۔ عَالَمُ الصِحافة: اخبار نویس لوگ۔ الصَحّاف: غلط پڑھنے والا، اخبار فروش۔ الصَحَفيّ: پڑھنے میں خطا کرنے والا، کسی استاد کے بجائے کتابوں سے علم حاصل کرنے والا۔ و الصِحافي: اخبار نویس۔ الصحيفة جمع صحائف و صُحُف: لکھا ہوا کاغذ، ورق، اخبار۔ المَصحَف و المِصحَف و المُصحَف جمع مصاحف: کتاب، مجلد کتاب۔ المُصحَّف: (مفع) کہتے ہیں: هذا اللفظ مصحف عن كذا: یہ لفظ اس سے بدلا ہوا ہے۔ المُصَحِّف: پڑھنے میں غلطی کرنے والا۔
۲۔ الصَحفَة جمع صِحاف: بڑا پھیلا ہوا پیالہ جو پانچ آدمیوں کو سیر کرنے کے لئے کافی ہو۔ الصحاف: پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے۔ الصحيف: روئے زمین، سطح زمین۔ صحيفةُ الوجه ای المحيّا جمع صحائف و صُحُف: چہرے کی کھال، چہرے کی کھال کا رنگ کہتے ہیں۔ صُن صَحيفَة وجهك: اپنے چہرے کے رنگ کی حفاظت کرنا۔
○ صَحَّفَ: نقطے غلط جگہ پر لگانا، کوئی لفظ، غلط پڑھنا، کسی لفظ کا غلط تلفظ کرنا، غلط ہجے کرنا۔ -- ہ: (رپورٹ وغیرہ) کو غلط پیش کرنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کو مروڑ تروڑ کر غلط معنی پہنانا۔ تَصَحَّفَ: (لفظ کا) غلط پڑھا جانا۔ غلط ہجے کیا جانا۔ غلط تلفظ کیا جانا۔ صَحفَة جمع صِحاف: پیالہ، ڈش، ڈونگا، قاب، چولی چنگیر۔ صُحَيفَة: پرچ (پیالے) صَحِيفَة جمع صُحُف و صَحائف: ورق (کتاب وغیرہ کا) صفحہ، اخبار، پرچہ، روزنامہ، رسالہ، سطح، ظاہری صورت، ظاہری حالت۔ صُحُفي: اخبار کا، اخباری، پریس کا، صحافیانہ جمع صحفيون: اخبار والے، اخبار نویس۔ مؤتمر صُحُفي: پریس کانفرنس۔ صِحَافَة: اخبار نویسی، اخباری کاروبار، پریس۔ صِحَافي: اخبار نویس، صحافتی، اخبار کا آدمی۔ صِحافية: خاتون اخبار نویس۔ مَصحَف و مُصحَف جمع مَصاحِف: جلد، کتاب، مصحف شریف، قرآن مجید کا نسخہ۔ تصحيف: (نقطے وغیرہ) غلط جگہوں پر لگانا، غلط فہمی، غلط تلفظ، سہو قلم، (گرامر کی) غلطی، مروڑ تروڑ کر غلط معنی پہنانا، توڑ مروڑ کر بیان کرنا۔

صحل: صَحِلَ - صَحَلًا صوتُهُ: بیٹھی ہوئی اور سخت آواز والا ہونا، صفت صَحِل و أصحَل۔
○ صَحَل: بھرائی ہوئی یا کرخت آواز۔

صحم: اصطَحَمَ الرجُلُ: سیدھا کھڑا ہونا۔ اِصحامّ اصحِيمامًا النباتُ: پودے کا بہت ہرا ہونا، زردی کا سبزی میں شامل ہونا۔ صفت أصحَم م صَحماء۔ - الارضُ: زمین کا سخت نباتات والی ہونا۔ الزرعُ: کھیتی پر سردی کا اثر ہو کر خشک ہونے لگنا۔ الصُحمة: بہت ہرا رنگ، سبزہ میں زردی کے آمیزہ کا رنگ۔

صحن: ۱۔ صَحَنَ - صَحنًا: کو مارنا کہتے ہیں۔ صحنهُ عشرين سوطا: اس نے اسے بیس کوڑے لگائے۔ ہ برجله: کو پاؤں سے مارنا۔ فرسٌ صَحُونٌ: لات مارنے والا گھوڑا۔
۲۔ صَحَنَ - صَحنًا الرجُلَ: کو پیالہ میں کچھ دینا۔ ہ دینارا: کو دینار دینا۔ الصَحن: (مص) جمع صُحون: چھوٹا پیالہ، بڑا پیالہ، گھر کا اندرونی حصہ اور اسی سے ہے: فرسٌ واسع الصحن: وہ گھوڑا جس

کے کمروں کا اندرونی حصہ چھوڑا ہو۔ مـن الارض: ہموار زمین۔ صـحـنُ الـدار: گھر کا صحن یا وسط۔ الـصـحـنـان (مو) جھانجھ، ایک قسم کا باجا۔ صَحْنَا الاُذُنین: کانوں کے اندرونی حصے۔ الـمِـصْـحَـنَـہ: بڑے پیالہ کی مانند ایک برتن۔

۳۔ صَحَنَ - صَحْنًا بینھم: کے درمیان صلح کرانا۔

۴۔ الصَّحْنیٰ و الصَّحْناۃ و الصَّحْناء و الصحناء ۃ: (ط) نمک لگی ہوئی چھوٹی مچھلی۔

○ صَحْن جمع صُحُون: پیالہ، کاسہ، پلیٹ، رکابی، ڈش، کھانا، خوراک، احاطہ، صحن، سطح، ہموار زمین، ٹکیا، قُرص، صحن۔ الـــدار: گھر کا صحن، آنگن، انگنائی۔ صحن الـسجایر: خاکستردان۔ علی صحن الـخـد: رخسار، گال پر یا رخسار، گال کی سطح پر۔ مَصْحُون: کچلا ہوا، پیسا ہوا، رگڑا ہوا۔ صحناۃ: سارڈین (ایک چھوٹی مچھلی) سارڈین کا اچار۔

صحا: ۱۔ صحا - صَحْوًا و صُحُوًّا و صَحِیَ یَصْحٰی صَحًا الیومُ: دن کا بے بادل والا ہونا۔ (مطلع صاف ہونا) صفت صَحْوٌ و صَاحٍ و مُصْحٍ عوام کہتے ہیں۔ صحیت الدنیا: بارش رک گئی۔ اَصْحَی اَصْحَاءً الیومُ: دن کا بے بادل ہونا۔ القومُ: قوم کے لئے مطلع صاف ہونا۔ الـصَّحْوُ (مص) کہتے ہیں: سماءٌ صَحْوٌ و یوم صَحْوٌ یعنی آسمان اور دن دونوں بے بادل ہیں (یہ مصدر کے ساتھ صفت ہے) المِصْحَاۃ: پانی پینے کا پیالہ۔

۲۔ صَحَا - صَحْوًا و صُحُوًّا و صَحِیَ یَصْحَی صحاً السکرانُ: نشہ میں مدہوش کا نشہ اتر جانا۔ - الرجلُ: بچپن کی جہالت کو چھوڑنا۔ باطل کو ترک کرنا، کو افاقہ ہونا۔ صفت صاح جمع صاحون و صُحاۃ ھ صاحیۃ جمع صاحیات و صواحٍ عام لوگ کہتے ہیں۔ صحی من نومہ یعنی وہ نیند سے بیدار ہو گیا۔ اَصْحَی اِصحاءً السکران: کا نشہ اترنا۔ الرجل: کو افاقہ ہونا۔ - ہٗ: کو ہوش میں لانا، افاقہ دینا۔ المَصْحَاۃ: افاقہ کا سبب کہتے ہیں۔ فیـہ مَسْلاۃ مـن کـرب الھمّ و مَصْحَاۃ من سکر الھمّ: اس میں غم سے تسلی اور غم کے نشہ سے افاقہ ہے۔

○ صحا - صُحُوًّا و صَحِیَ - صَحًا: (دن یا آسمان کا) صاف ہونا، چمکدار ہونا، بے بادل ہونا، پرسکون ہونا۔ صَحْوًا و صُحُوًّا: ہوش میں آنا۔ - من: نشے سے آپے میں آنا، نشہ اتر جانا۔ - من: (نیند سے) بیدار ہونا۔ الی: سے چوکس ہو جانا، چوکنا ہونا، ہوشیار ہونا، سے آگاہ ہو جانا۔ صَحَّوَ ہٗ: کو بیدار کرنا، جگانا، اٹھانا۔ اَصْحَی: (دن، آسمان کا) صاف، چمکدار، بے بادل، پرسکون ہونا۔ صحـو مطلع کا صاف ہونا، چمکدار ہونا، (موسم کا) پرسکون ہونا، صفائی وضاحت، شگفتگی، ذہن کی چوکسی، آگاہی، آگہی، شعور، چمکدار، پرسکون، بے بادل، دھوپ سے روشن (موسم) صَحْوۃ: بے داری، ہوش میں آنا، آگہی کی حالت۔

صاحٍ: چمکدار، پرسکون، بے بادل، صاف (موسم)، بے دار، چوکنا، چوکس، ہوشیار۔ (جمع صاحون و صُحاۃ)

صخ: ۱۔ صَخَّ - صَخًّا الحدید بالحدید: لوہے کو لوہے پر مارنا۔ الصوتُ الاُذُنَ: آواز کا کان کو لگنا اور بہرا کر دینا کہتے ہیں۔ صخّ زیدٌ عمرا بعظیمۃٍ: زید نے عمر کو بڑی مصیبت سے دوچار کیا۔ - صَخًّا و صَخِیخًا الحدیدُ: لوہے کا کسی سخت چیز کی ضرب سے آواز نکالنا۔ الصَّخّ و الصَّخَّۃ: پتھر یا لوہے کی آواز (جب اسے ضرب لگائی جائے) آپ کہتے ہیں: ضربتُ الصخرۃَ بحجر فسمعتُ لھا صَخَّۃً: میں نے چٹان پر پتھر مارے تو میں نے اس کی آواز سنی۔ الصاخّۃ: بہرا کر دینے والی سخت چیخ، مصیبت، قیامت۔ اا جائت الصاخّۃُ: جب قیامت آئے اور اس کی سخت چیخ سنائی دے۔ الـصَّخِیخ: پتھر یا لوہے کی آواز، ڈر کر نکلنے والی کوے کی آواز۔

۲۔ صَخَّ - صَخًّا و صَخِیخًا لِحَدِیثِہٖ: کی بات سننے کے لئے کان لگانا۔ الصَّخَّۃ: اسم مرہ، باری۔

صخب: صَخِبَ - صَخَبًا: چیخنا، شور مچانا۔ صَاخَبَ مُصَاخَبَۃً ہٗ: ایک دوسرے پر چیخنا۔ تصاخب القومُ: باہم شور کرنا اور ایک دوسرے کو مارنا۔ اِصْطَخَبَت الـطیرُ او الـضفادعُ: پرندوں یا مینڈکوں کا مخلوط آوازیں نکالنا۔ الصَّخَب: (مص) شور۔ الصاخِب و الصَّخِب و الصَّخَّاب و الصَّخُوب و الصُّخْبان و (جمع صَخبان کی صُخبان ہے)۔ چلانے والا، شور مچانے والا، مونث۔ صَخِبۃ و صَخَّبَۃ و صخابۃ و صَخُوب و صَخْبَی۔

○ صَخِبَ - صَخَبًا: چیخنا، چلانا، چیخ پکار کرنا، شور مچانا، زور سے بولنا، طیش میں آنا، بہت زوروں کا ہونا، زور سے بولنا، غل مچانے والا ہونا، پرشور ہونا، آسمان سر پر اٹھانے والا ہونا۔ علی: کو جھاڑ جھپاڑ کرنا۔ اِصْطَخَبَ: غل مچانا، غوغا کرنا، شور و غل کرنا، یا مچانا، ایک ہی وقت میں زور زور سے بولنا، دھاڑنا، گرجنا، ہنگامہ خیز ہونا، سخت اضطراب میں گونجنا، بہت زوروں کا ہونا، سخت تیز ہونا۔ قوۃ صاخبۃ: آواز کی طاقت۔

صخد: ۱۔ صَخَدَ - صَخْدًا تُہُ الشمسُ: سورج کا کو جلانا۔ صَخِدَ صَخَدًا و صَخَدانًا الیومُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ اَصْخَدَ الحرُّ: گرمی کا سخت و تیز ہونا۔ الرجلُ: گرمی میں داخل ہونا۔ الـحـربـاءُ: گرگٹ کا دھوپ کھانا۔ الـصـاخـدہ: دوپہر۔ الـصَّـخْـدان و الـصَّخَدان: سخت گرم دن۔ صَیْخَدُ الشمس: سورج کی شعاع۔ ھاجرۃ صَیْخُود جمع صَیاخِید: سخت گرم دوپہر۔ صیاخید الحرّ: گرمی کی شدت۔ الـمَصْخَدہ جمع مَصاخِد: دوپہر۔ الـمُصْطَخِد: سیدھا کھڑا ہونے والا۔

۲۔ صَخَدَ - صَخْدًا الصُّرَدُ: لٹورے کا آواز کرنا۔

۳۔ صَخَدَ - صُخُودًا الیہ: کی طرف کان لگانا۔

صخر: ۱۔ صَخَّرَہٗ: کو مطیع کرنا۔

۲۔ اَصْخَرَ المکانُ: جگہ کا بہت چٹانوں والی یعنی پتھریلا ہونا۔ صفت مُصْخِر۔ الـصَّخْرۃُ و الصَّخَرۃُ جمع صَخْرو صَخَر و صُخُور و صُخُورَۃ و صَخَرات (ط ا) چٹان کہتے ہیں۔ فلان صَخْرۃُ الـــوادی: فلاں وادی کی چٹان ہے یعنی ثابت قدم ہے۔ الـصَّخِر من الامکنۃ: چٹانی جگہ، وہ جگہ جہاں بہت سی چٹانیں ہوں کہتے ہیں۔ ھو صَخِر الوجہِ او اَصْخَرُ الوجہِ: وہ بے حیا ہے۔

۳۔ الصاخر: لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز۔ الصَّاخِرۃ: پانی پینے کے لئے مٹی کا برتن۔

○ صَخر اسم جمع واحد صخرہ جمع صُخُور و صُخُورَۃ و صَخَرات: چٹانیں، ٹھوس چٹان، گھسے ہوئے یا گول مول پتھر، چٹانوں کی ترتیبیں۔ قُبّۃُ الصخرۃ: چٹان کا گنبد (مسجد عمر بیت المقدس)۔ صَخْرِی: چٹانی، سنگلاخ۔ صَخِر: پتھریلا، پتھر کا ساخت، پتھریلا، سنگلاخ۔

صخف: صَخَفَ ـــ صَخْفًا الارضَ: زمین کھودنا۔ الـمِصْخَفۃ جمع مَصَاخِف: کھودنے کا آلہ، کدال، پھاوڑہ۔

صخم: صَخَمَ - صَخْمًا تُہُ الشمسُ: دھوپ کا کسی کو جھلسا دینا۔ اِصْطَخَمَ الرجلُ: سیدھا کھڑا ہونا۔

صخی: صَخِیَ یَصْخَی صَخًا الثوبُ: کپڑے کا میلا کچیلا ہونا، صفت۔ صخٍ۔ الصَّخاۃ: میل کچیل

صدّ: ۱۔ صَدَّ - صُدًّا ہٗ عن کذا: کو سے ہٹانا منع کرنا کہتے ہیں۔ صَدَّ السبیلَ: راہ میں حائل ہونا، رکاوٹ وغیرہ کا۔ صَادَّہٗ: کی مدافعت کرنا کہتے ہیں: اخـذ یصادُّہٗ و یضادُّہٗ: وہ اسکی مدافعت اور مخالفت کرنے لگا۔ اَصَدَّہٗ عن کذا: کو سے منع کرنا، روکنا۔ تَصَدَّدَ لَہٗ: کے درپے ہونا۔ الصَّدَد: سامنے کہتے ہیں۔ داری

صَدَّ دارِہ اوبِصَدَدِھا اوعلی صَدَدِھا : یعنی میرا گھر اس کے گھر کے قریب اور سامنے ہے۔ الصَّدُود: روکنے والا۔

۲۔ صَدَّ ۔ صَدًّا و صُدُودًا عنه: سے اعراض کرنا، ہٹنا، منحرف ہونا، تجاوز کرنا، بے رغبت ہونا صفت صادّ جمع صُدَّاد مونث صادّة جمع صَوادّ و صُدَّاد۔ الصدد: قصد: (کہتے ہیں ھو صَدَدُك وہ تیرا مقصود ہے۔ نَحْنُ فی صددِ فلانٍ: ہم فلاں شخص کی بات کا مقصود ہیں)۔ میلان، رغبت (کہتے ہیں۔ لأُقِيمَنَّ صَدَدَكَ: میں تمہارے میلان کو ابھاروں گا)۔ کنارہ۔ الصُّدَّاد جمع صَدائِد: پانی کی طرف جانے والا راستہ۔

۳۔ صَدَّ ۔ صَدِيداً من الشیء: چیخنا، چلانا۔ صَدَّدَ: تالی بجانا۔

۴۔ صَدَّ الجرحُ: زخم کا پیپ دینا۔ اَصَدَّ الجرحُ: زخم کی پیپ دینا، نکلنا، بہنا۔ الصدید: کچلہو، خون ملی پیپ۔ صدیدُ المِفضّة: پگھلی ہوئی چاندی۔

۵۔ اِصْطَدَّتِ المرأةُ: عورت کا پردہ کرنا۔ الصِّداد جمع أَصِدَّة: پردہ (عورت کا)۔

۶۔ الصَّدّ والصُّدّ جمع اَصْدادٌ و صُدُود: پہاڑ، وادی کا کنارہ، بلند بادل۔ الصُّدَّاد جمع صَدائِد (ح) سانپ، چھپکلی۔ الصَّدُود: چھوٹی کرتی۔

○ لایَصُدُّ النَّظَرَ: یہ آنکھوں کو برا نہیں لگتا یا آنکھوں کو ناگوار نہیں گزرتا، کی طرف دیکھنا بہت اچھا ہے۔ تَصَدَّدَ لَ: کا سامنا کرنا، کے روبرو ہونا، دوچار ہونا، کا سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، کے سامنے ڈٹ جانا۔

صَدَدَ: کے بالمقابل، کے سامنے۔ علی صددِ و بصددِ: کے بالمقابل، کے سامنے۔ فی صدد: کے بارے میں، کے متعلق۔ فی ھذا الصدد: اس سلسلہ میں، اس کے بارے میں، اس کے متعلق، اس موقع پر۔ ھو بصددِ امر: وہ اس وقت، میں مشغول ہے۔ نَرْجِعُ الی مَانَحْنُ بِصَدَدِہٖ: اب ہم اپنے موجودہ معاملہ کی طرف لوٹتے ہیں، اب ہم اس موضوع کی طرف لوٹتے ہیں جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بحث کر رہے تھے۔ صَدِید: پیپ، ریم۔ صدیدی: پیپ دار۔

صدی: ۱۔ صَدِئَ ۔ صَدَأً و صَدُؤً ۔ صَداءَةً الحدیدُ: لوہے کو زنگ لگنا، لوہے کا زنگ آلود ہونا صفت صَدِئٌ م صَدِئَةٌ ۔ الشیءُ: کسی چیز کا رنگ میں زنگ کے مشابہ ہونا، زنگاری رنگ کا ہونا صفت اَصْدَأ مونث صَدْآءُ۔ صَدَأَ ۔ صَدْأً و صَدَّأَ تَصْدِئَةً الشیءَ: کا زنگ دور کرنا۔ المِرآةَ: آئینہ کو صاف کرنا۔ أَصْدَأَهُ: کو گندا کرنا، فرسودہ کرنا، زنگ لگانا، مورچہ والا، جیسا بنانا۔ الصَّدَأ: زنگ، مورچہ۔ الصَّدِئ: زنگ آلود کہتے ہیں۔ رجع فلان صاغراً صَدِئاً: وہ ذلیل وخوار لوٹا جبکہ رسوائی اور کمینگی کا ٹیکہ اس پر لگ چکا تھا۔ الصُّدْأَة: زنگ کا رنگ، زنگاری رنگ

۲۔ صَدِیَ ۔ صِدًا و صَدُوً ۔ صَدَاةً الرجُلُ: سیدھا کھڑا ہوکر دیکھنا۔ تَصَدَّأَ لَهُ: کے درپے ہونا۔

۳۔ رَجُلٌ صَدَاءٌ: نازک جسم آدمی۔

○ صَدِیَ ۔ صَدَأً و صَدُوً ۔ صَداءَةً: زنگ آلود ہونا یا ہو جانا، زنگ لگنا۔ صَدَّأَ ہ: کو زنگ آلود کرنا، کو زنگ لگانا، گھس دینا۔ صَدَأ: زنگ کلونس، کالک کا دھبا۔ صَدِئ: زنگ آلود، گندا، پھٹا پرانا۔ مُصْدَأ: زنگ آلود، زنگ سے ڈھکا ہوا۔

صدح ۔ صَدَحَ ۔ صَدْحًا و صُدَاحًا الرجُلُ او الطائرُ: آدمی یا پرندہ کا گانے میں اپنی آواز کو بلند کرنا صفت۔ صادِح و صَدَّاح صَيْدَح و صَيْدَاح و صَدُوح و صَيْدَحِيّ و مِصْدَح و مِصداح۔ الصَّدَح جمع صِدْحان: عَلَم: خالی جگہ، پتھریلی پہاڑی۔ شیءٌ صَدَحٌ: سیاہ چیز۔ الصَّدْحة والصُّدْحَة و الصَّدَحَة تعویذ کے طور پر استعمال کیا جانے والا منکا یا مہرہ۔

○ صَدَحَ ۔ صَدْحًا و صُدَاحًا: گیت گانا، گنگنانا، گانا۔ ـــــب: دھن بجانا، زمزمہ خواں ہونا۔ صَدَح: جھنڈا، علم پرچم۔ صَدَحَات: نغمات موسیقی۔

صدر: ۱۔ صَدَرَ ۔ صَدْرًا و مَصْدَراً عن المکان وعن الماء: جگہ یا پانی سے واپس ہونا۔ الی المکان: جگہ کی طرف جانا۔ ـــ الرجُلَ عن کذا: کو سے واپس کرنا۔ صَدَّرَهُ: کو واپس کرنا۔ اَصْدَرَہ عن کذا: کو سے واپس کرنا۔ تَصادَرُوا علی ماشاؤُوا: واپس آنا۔ الصدر: صادر کی جمع کا اسم پانی سے واپس آنے والے چوپائے، پانی سے واپسی، مسافر کی واپسی۔ الصادر (فا): واپس آنے والا، اس کا زیادہ اطلاق پانی سے واپس ہونے پر ہے۔ اس کا مقابل وارد ہے۔ یعنی پانی پر آنے والا اس سے ہے۔ ماله صادر والاوارد: اس کے پاس کچھ نہیں۔ طریق صادِر: پانی سے واپسی کا راستہ۔ طریق واردٌ صادِرٌ: آنے جانے کا راستہ۔

۲۔ صَدَرَ ۔ صَدْرًا ہُ: کے سینہ پر مارنا۔ صُدِرَ: سینہ میں درد ہونا صفت مصدور۔ صَدَّرَہُ: کو صدر مجلس بنانا۔ ـــ الکتابَ بکذا: تحریر کو کی سرخی دینا، کتاب کا دیباچہ لکھنا، کتاب کو کے ساتھ متعارف کرانا۔ الفرسُ: گھوڑے کا آگے بڑھنا۔ تَصَدَّرَ: صدر مجلس میں بیٹھنا کہتے ہیں۔ تَصَدَّرَ المجلسَ: وہ اگلی نشست پر بیٹھا یا بٹھایا گیا۔ سینہ نکال کر بیٹھنا۔ الفرسُ: گھوڑے کا آگے ہونا۔ الصَّدْر ج صُدُور: (ع ا) سینہ (کہتے ہیں فلان بعیدُ الصدر: فلاں شخص غیر مہربان ہے) ہر چیز کا سامنے سے اوپر کا حصہ، ہر چیز کا شروع (کہتے ہیں۔ ـــ اَخَذَ الشیءَ بصَدْرِہ: یعنی اس نے اس چیز کو شروع سے لیا)۔ چیز کا ٹکڑا۔ اخذتُ صدراً منه: میں نے اس کا ایک ٹکڑا لیا۔ الصدرُ الأعظم: وزیر اعظم۔ صدرُ القوم: قوم کا سردار۔ بناتُ الصدرِ: پریشانیاں، فکریں۔ ذات الصدر (طب): سینہ کی ایک بیماری۔ صدورُ الوادی: وادی کا بلند ترین حصہ، وادی کی سامنے کی جگہیں۔ الصُّدْرَةُ من الانسان (ع ا): سینہ یا سینے کا بالائی حصہ۔ الصُّدْرَة: واسکٹ۔ الصُّدْرِیَّة: واسکٹ۔ التصدیر: اونٹ کا تنگ۔ الصِّدار: صدری، اونٹ کے سینہ کا نشان۔ الصَّدَارَة: تقدم، صدر اعظم کا عہدہ (بنی عثمان کی حکومت میں)۔ والصدیرة جمع صدائر: سینہ کا اوپر کا حصہ۔ الاصدر: مضبوط بڑے سینے والا۔ المُصَدَّر: چوڑے سینے والا، مضبوط سینہ والا (ح)، شیر، بھیڑیا، آگے بڑھنے والا گھوڑا۔ المَصْدُور (طب) سل کا مریض، جسے سینے میں تکلیف محسوس ہو۔

۳۔ صَدَرَ ۔ صُدُوراً الامرُ: واقع ہونا، پیدا ہونا۔ منه: سے ظاہر ہونا۔ ـ عنه: سے پیدا ہونا، نتیجہ نکلنا۔ اصدر الامرَ: حکم جاری کرنا، کہتے ہیں فلانٌ یُورِدُ ولایُصْدِر: یعنی وہ نہ تو کام شروع کرتا ہے اور نہ ہی اسے مکمل کرتا ہے۔ المَصْدر جمع مَصادِر: نکلنے کی جگہ، جائے صدور، اسی سے ہے مصادر الافعال۔ کیونکہ مجرد افعال مشتقات کی اصل اور جڑ ہیں۔ رجل مُصْدِر: کام مکمل کرنے والا شخص۔

۴۔ صَدَّرَ السلعة: مال برآمد کرنا۔ أصدر الرجُلَ: کو لے جانا۔ التصدیر: (ملک کی مصنوعات) پیدا کردہ اشیاء کی دوسرے ممالک کو برآمد۔

۵۔ صادر علی الشیء وبه: کا اصرار کے ساتھ مطالبہ کرنا۔

۶۔ الأَصْدَران: کنپٹیوں کی دو رگیں۔ جاء یضرب أصْدَرَیه: وہ خالی آیا۔

○ صدر ۔ صُدُوراً من / عن: سے باہر نکلنا، کا نتیجہ ہونا، نکلنا، جاری ہونا، ظہور ہونا، پیدا ہونا، وجود میں آنا۔ ـــ: شائع ہونا، جاری ہونا، نافذ ہونا (حکم قانون وغیرہ) ظہور میں آنا، چھپنا طبع ہونا (کتاب) باہر جانا

(ڈاک)۔ الی: کے پاس جانا۔ ـــ: واقع ہونا، ہونا، عمل میں آنا۔ صدر عن الجدّ: سنجیدگی سے کام کرنا صدر عن ارادتہ: اپنے ارادہ پر عمل کرنا۔ صَدَّرَ ہ: کو بھیجا، ارسال کرنا، روانہ کرنا، برآمد کرنا، شائع کرنا (کتاب کو) دیباچہ لکھنا (کتاب کا)۔ ہ ب: کے ساتھ، کتاب کا تعارف کرانا، شروع کرنا۔ صَادَرَ ہ: کو گرفت میں لینا، قرق کرنا، ضبط کرنا۔ ہ: پر زور دینا، دباؤ ڈالنا، کو دبانا، کے راستہ میں رکاوٹیں ڈالنا۔ اُصْدَرَ ہ: کو بھیجنا، ارسال کرنا، برآمد کرنا، جاری کرنا (جیسے بونڈ بینک نوٹ وغیرہ) شائع کرنا (کتاب وغیرہ)، جاری کرنا، دینا (حکم وغیرہ) پاس کرنا۔ دینا (قانونی سزا وغیرہ) کہنا، بولنا ظاہر کرنا، اظہار کرنا (رائے وغیرہ کا) تَصَدَّرَ: بھیجا جانا، ارسال ہونا۔ ــ ہ: کی صدارت کرنا، کا سربراہ ہونا، کی سربراہی کرنا، میں سامنے کی نشست حاصل کرنا۔ ل: کی مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، کے راستہ میں رکاوٹیں، کھڑی کرنا کے راستہ میں حائل ہونا۔ استصدر ہ (ای حکما) کسی قانونی فیصلہ یا سزا) کا باعث ہونا، حاصل کرنا۔ ـــ: (مرسوما) آرڈیننس جاری کرنا۔ صَدْر جمع صُدُور: سینہ، (مرد یا عورت کا) دل کے سامنے کا حصہ، اگلا حصہ، سامنا، ماتھا، حصہ، پہلی نحاف کاری، رہنما، قائد، کمانڈر، آغاز، شروع، ابتداء، ابتدائی عرصہ، شروعات، نیا سویرا۔ صدر الدار مجلس کا صدر۔ صدر رحبٌ: سخاوت فیاضی، کریم النفسی، فراخدلی، کشادہ، دلی، وسیع النظری، وسیع المشربی، روا داری۔ بے تعصبی: صاف دلی، غیر جانبداری، بے لاگ پن۔ صدر الاسلام: اسلام کا ابتدائی زمانہ، آغاز اسلام۔ صدرُ المکان: کمرہ کا سب سے پہلا حصہ۔ صدر النہار: سویرا، تڑکا، فجر، دن کا آغاز۔ ابو صدر لال چڑی۔ بنات الصدر پریشانیات، اندیشے۔ باب الصدر: سامنے کا دروازہ۔ ذات الصدر: سینہ کی تکلیف، دل کا بنیادی حصہ، رازہائے سربستہ، بھید۔ رَحْبُ الصدر: فیاض، کریم النفس، فراخ دل، کشادہ دل وسیع النظر، آزاد خیال، شکوک سے آزاد، بے جھجک۔ رحیب الصدر بمعنی رَحْبُ الصدر ضَيِّقُ الصدر ب پر برہم، ناراض، غصے، غیر مطمئن، افسردہ دل، غمزدہ۔ منقبض الصدر اداس، دل شکستہ، غمگین، بددل، افسردہ، ناامید، مایوس، پژمردہ، دل شکستہ، پٹا ہوا، ہارا ہوا۔ مکانۃُ الصدر اولین مقام، پیش روی، برتری اولیت۔ واسع الصدر بمعنی رَحْبُ الصدر، صدراً من الزمان: کچھ عرصہ۔ فی الصدر پیش منظر میں۔ سَخَّم بصدرہ: کو برہم کرنا، پریشان کرنا، دق کرنا، غصہ دلانا، برافروختہ کرنا۔ انشرحَ صدرُہُ: خوش ہونا، باغ باغ ہونا۔ صَدْرِیّ: سینہ کا۔ نَزْلَۃٌ صَدْرِیَّۃ ورم زخرہ، نقفی ورم۔ صُدْرَہ: واسکٹ، گلکار، سینہ بند صدری، باڈی، چولی۔ صُدَیری و صُدَیْرِیَۃ جمع صدیریات: واسکٹ، صدری، بنیان، باڈی، چولی۔ صِدار بنیان، واسکٹ، باڈی، چولی۔ صَدارَۃ و صِدارَۃ: پیش روی، برتری، صدارت، چیئرمین شپ، پہلا مقام، افضلیت، تفوق، وزارت عظمٰی، وزیر اعظم کا منصب، چانسلری یا مقام و درجہ۔ مَصْدَر جمع مصادر: نقطۂ آغاز، نقطۂ ابتداء، اصل منبع، سرچشمہ، مصدر، اسم فعل، مطلق مفعول تصدیر: بھیجنا، ارسال کرنا، برآمد کرنا، برآمد، دیباچہ، پیش لفظ (کتاب کا) اجراء۔ مُصَادَرَۃ: گرفت کرنا، ضبط کرنا۔ اصدار برآمد کرنا، برآمد، اجراء، جاری کرنا، شائع کرنا، ایڈیشن، نشرواشاعت۔ مَصْرِف الاصدار: بنک اجراء۔ استصدار: جاری کرنا۔ صادِر: باہر جانے والا، نکلنے والا، جاری ہونے والا، ظہور ہونے والا، وجود میں آنے والا، جاری شدہ، شائع شدہ، برآمد کرنا، برآمد، پیداوار۔ الصادرات: برآمدات، برآمدی سامان، اشیائے برآمد۔ مصدور: سینہ کی تکلیف میں مبتلا، دق میں مبتلا۔ مُصَدِّر: تاجر برآمد، برآمد کنندہ جمع مُصَدِّرُون

صدع: ۱۔ صَدَعَ ـ صَدْعًا الشیءَ: کو پھاڑنا مگر جدا نہ کرنا یعنی میں درز ڈالنا کو تڑقانا۔ ـــ القوم: قوم میں تفریق ڈالنا۔ الامرَ: کو ظاہر کرنا۔ بالحق: حق کا کھلے طور سے اظہار کرنا۔ ـــ الامرَ بالحق: کا حق سے فیصلہ کرنا۔ ـ صُدُوعًا الفلاۃَ او النہرَ: صحرا یا دریا یا عبور کرنا۔ صَدَّعَ الشیءَ: کو پھاڑنا۔ ـــ الفلاۃَ او النہرَ: بیابان یا دریا عبور کرنا۔ تَصَدَّعَ القومُ: لوگوں کا متفرق ہونا۔ ـ الشیءُ: پھٹنا کہتے ہیں۔ تصدعت الارضُ بالنبات: یعنی زمین پودوں کے نکلنے کی وجہ سے پھٹ گئی۔ اِنْصَدَعَ الشیءُ: پھٹنا۔ کہا جاتا ہے: انصدعت الارضُ بالنبات: زمین پودوں کے نکلنے کی وجہ سے پھٹ گئی۔ ـــ الصباحُ: صبح کا روشن ہونا۔ الصَّادِع (فا) قاضی۔ صبحٌ صادِعٌ: روشن صبح۔ الصَّدْع (مص) جمع صُدُوع: دراز، پھٹن۔ الصِّدْع: دو حصوں میں پھٹی ہوئی چیز کا ایک نصف۔ لوگوں کا ایک گروہ۔ الصَّدْعَۃ جمع صَدَعَات: صدع کا اسم مرۃ کہتے ہیں: رایتُ بینہم صَدَعَات: میں نے لوگوں میں خواہشات اور آراء میں اختلاف دیکھا۔ اَصْلِحوا مافیکم من الصدعات: اپنے آپس کے اختلافات کو دور کرو، متحد ہو جاؤ اور فرقہ فرقہ نہ ہو۔ الصِّدْعَۃ جمع صِدَع: بکریوں کا ریوڑ، دو برابر ٹکڑوں میں پھٹی ہوئی چیز کا نصف۔ الصَّدِیع: زرہ کے نیچے پہننے کا کپڑا۔ جمع صُدُع: زرہ کے نیچے پہننے کیکپڑے، پھٹا ہوا، صبح، پھٹا ہوا کپڑا۔ التصداع: تفریق۔

۲۔ صَدَعَ ـ صَدْعًا فلانًا: کا قصد کرنا (اسکی فیاضی کی وجہ سے) ـــ فی الامر: کام کر ڈالنا۔ فی المکان: گزرنا (جگہ میں) کہتے ہیں: ھذا الطریق یصدع فی ارض کذا: یعنی یہ راستہ اس زمین سے گزرتا ہے۔ ـــ صُدُوعًا اللیلَ: رات کو چلنا۔ تَصَدَّعَت الارض بہ: وہ شخص فرار ہو کر زمین میں کہیں گم ہو گیا۔ جبلٌ صَادِعٌ: لمبائی میں پھیلا ہوا پہاڑ۔ سبیلٌ صادِعٌ و وادٍ صادِعٌ: زمین میں پھیلا ہوا راستہ یا پھیلی ہوئی وادی۔ المَصْدَع جمع مَصادِع: سخت زمین میں نرم راستہ۔

۳۔ صَدَعَ ـ صُدُوعًا الی کذا: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔ ہ عن کذا: کو سے روکنا، منع کرنا۔ ـ رجلَہ کا پاؤں پھسلنے سے موچ آ جانا (عام زبان میں) انصدعت رجلُہ: پاؤں میں موچ آ جانا۔

۴۔ صُدِعَ و صُدِّعَ: کو دردِ سر لاحق ہونا۔ صفت مصدوع۔ الصُّداع: سر کا درد۔

۵۔ صَدَّعَ خَاطِرَہ: کو ضرورت پوری کرنے کی تکلیف دینا۔ (عام بول چال)

۶۔ الصَّدْع: چھریرے بدن کا آدمی، مضبوط جوان، کہتے ہیں۔ الناسُ علیہم صَدْعٌ واحد: لوگ انکی عداوت پر متفق اور مجتمع ہیں۔ الصَّدَعُ: دراڑ، پھٹن۔ صَدَعُ الحدید: لوہے کا زنگ۔ المِصْدَع: چوڑا پھل کہتے ہیں: خطیبٌ مِصْقَعٌ مِصْدَعٌ: بلیغ خطیب۔

○ صَدَعَ ـ صَدْعًا ہ: کو پھاڑنا، جدا کرنا، کاٹ ڈالنا، میں دراڑ ڈالنا، کو توڑنا، میں دراڑوں کا باعث ہونا، رکاوٹ دور کرنا (مشکلات اور رکاوٹوں) پر غالب آنا، کو دور کرنا، پر قابو پانا۔ صدع بالحق: حق کا برملا اظہار کرنا۔ صدع بامر: کسی حکم کی تعمیل کرنا، پر عمل کرنا۔ صُدِعَ: کو سر درد ہونا۔ صَدَّعَ ہ: کو سر درد میں مبتلا کرنا۔ خاطِرَہ: کو جان بوجھ کر چھیڑنا، دق کرنا، ستانا، پریشان کرنا۔ صُدِّعَ: کو دردِ سر ہونا۔ تَصَدَّعَ: پھٹنا، جدا ہونا، ٹوٹنا، دراڑ آنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ تُصُدِّعَ: چکرانا، تھرتھرانا، ہلنا۔ تصدع عن: سے الگ ہونا، علیحدگی اختیار کرنا۔ اِنْصَدَعَ: پھٹنا، جدا ہونا، ٹوٹنا، دراڑ پڑنا، غیر مہذب انداز میں تشریح کیا

جانا، صبح ہونا۔ صَدْع جمع صُدُوع: شگاف، درز، دراڑ، تڑاقا، ٹوٹنا۔ صُدَاع: دردسر۔ صدوع: دراڑ، درز یا شگاف دار، ٹوٹا ہوا۔

صدغ: ۱۔ صَدَغَ ۔ صَدْغًا ہُ عن الامر: کو سے ہٹانا، موڑنا۔ ہُ: کی کجی درست کرنا۔ صَدَغَا و صُدُوغًا الی الشیء: کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔ صَدُغَ صَدَاغَةً الرجُل: کمزور ہوجانا۔ الصَدَغ: ٹیڑھاپن، کجی، جھکاؤ۔ الصدیغ: کمزور۔

۲۔ صَدَغَ ۔ صَدْغًا ہُ: کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا۔ — صُدِغَ: کی کنپٹی میں درد ہونا۔ صَادَغ ہُ: کے شانے سے شانہ ملا کر چلنے میں مقابلہ کرنا۔ الصُدْغ جمع صداغ: (ع ا) کنپٹی پر لٹکنے والے بال، کنپٹی۔ الصِداغ: کنپٹی پر نشان۔ الصَدِیغ: تین دن کا بچہ۔ الاصدغان: کنپٹی کے نیچے کی دو رگیں۔ المِصْدَغَة: تکیہ۔ بعیرٌ مُصَدَّغٌ و مَصْدُوغ: کنپٹی پر نشان زدہ اونٹ۔

۳۔ صَدَغَ ۔ صَدْغًا النملةَ: چیونٹی کو مار ڈالنا۔

صدف: ۱۔ صَدَفَ ۔ صَدْفًا و صُدُوفًا: پھر جانا، جھکنا۔ صَدْفًا عنه: سے اعراض کرنا، کترانا۔ فلانًا: کو پھیر دینا، ہٹانا۔ صَدِفَ ۔ صَدَفًا: نزدیک نزدیک رانوں اور دور دور، سموں والا ہونا۔ أصدف ہُ عنه: کو سے پھیر دینا، ہٹا دینا۔ تَصَدَّفَ عنه: سے اعراض کرنا، کترانا۔ الصَدَف: طرف، کنارہ، جانب، پہاڑ کا کنارہ۔ — فی الخیل: گھوڑوں کی رانوں کے درمیان کی نزدیکی اور سموں کا بعد۔ الصُدُف و الصُدَف والصَدُف: پہاڑ کا کنارہ۔ الصَدَفَة: طرف کنارہ۔ فرس اَصْدَف: وہ گھوڑا جس کی رانوں کے درمیان نزدیکی اور سموں میں فاصلہ ہو۔ الصَدُوف: بہت اعراض کرنے والا، بہت کترانے والا، گندہ دہن۔ المَصْدُوف: (مفع) مستور، پردہ میں چھپا ہوا۔

۲۔ صَدَفَ ۔ صَدْفًا و صُدُفًا ہُ (عند العامه): سے اتفاقیہ مڈبھیڑ ہونا۔ صَادَفَ ہ: سے ارادۃً اور اتفاقاً ملنا۔ تَصَدَّفَ: تعرض کرنا۔ — الامرُ عند العامة: مطابق ہونا۔ تَصَادفا: باہم ملاقات کرنا۔ الصِدْفَة جمع صِدَف: اتفاق۔

۳۔ الصَدَف واحد صَدَفة جمع اصداف: سیپی۔ الاصداف: سمندر کی لہریں۔ صَدَفَةُ الأُذُن: (ع ا) کان کا جوف۔ الصَدَفِیات: (ح) پانی میں رہنے والے جانور جن کی ہڈیاں نہیں ہوتیں۔

صَدَفَ ۔ صَدْفًا و صُدُوفًا: اتفاقیہ ہونا۔ صَادَفَ ہ / ھ: کو پانا۔ ہ / ھ: سے ملنا۔ ہ: سے اتفاقاً، غیر متوقع طور پر ملنا۔ ہ / ھ: کو اتفاق سے پانا، سے ٹکرا جانا، مڈبھیڑ ہونا۔ ھ: سے متفق یا موافق ہونا، اتفاقاً کے ساتھ ہی ہونا، بیک وقت ساتھ ساتھ ہونا، ایک ساتھ ہونا۔ کسی متعین تاریخ کو پڑنا۔ صادف ان: اتفاق سے ہوا یہ کہ۔ صادف الاستحسانَ: کا پسندیدگی سے استقبال کیا گیا۔ کو پذیرائی ملی۔ صَادَفَ محلَّه: کو آسانی سے پالینا، کشادہ ہونا، آرام دہ ہونا، مناسب، برمحل اور بروقت ہونا۔ تصادف: اتفاقاً ہونا۔ صُدْفَةً: اتفاقاً۔ بالصُدفة او بطریق الصُدفة: اتفاقاً۔ مُصادَفَةً: اتفاقاً۔ مصادِفٌ ل: کے برابر، کے متوازی، کے مطابق، موافق (جیسے ۴ جنوری مطابق ۴ کانون الثانی۔ الرابع من ینایر المصادف للرابع من کانون الثانی)

صدق: ۱۔ صَدَقَ ۔ صَدْقًا و صِدْقًا و مَصْدُوقَةً و تصداقًا: سچ بولنا۔ فی وعده او وعیده: وعدہ پورا کرنا، دھمکیاں پوری کرنا۔ ہُ النصیحةَ او المحبَّةَ: کو بےلوث نصیحت کرنا، سے بےلوث محبت کرنا۔ — ہُ الحدیثَ: کو سچی اطلاع دینا۔ صَدَّقَ ہُ: کو سچا ٹھہرانا، سچا سمجھنا۔ صَادَقَ صِدَاقًا و مُصَادَقَةً ہُ: کا دوست ہونا۔ ہُ المودّةَ: سے خالص دوستی کرنا۔ تَصَادَقَا: ایک دوسرے سے دوستی کرنا۔ — الحدیثَ او المودّةَ و فیهما: ایک دوسرے سے سچی بات کرنا اور سچی دوستی رکھنا۔ الصَدْق جمع صُدُق و صُدُق و صَدْقُون م صَدْقَة جمع صَدْقات: کامل شے کہتے ہیں رجُلٌ صَدْقُ اللقاء والنظر: ملنے اور دیکھنے میں کامل شخص۔ الصِدْق: سچ (کہتے ہیں ھو رجلُ صِدْق و صدیقُ صِدْقٍ: وہ سچا مرد اور دوست ہے) سنجیدگی، متانت۔ نیةٌ صادِقَة: خالص نیت۔ الصَدَاقَة: سچی دوستی۔ الصَدُوق جمع صُدُق و صُدُق: ہمیشہ سچ بولنے والا۔ الصَدِیق جمع أصدقاء و صُدَقاء و صُدقان جج: أصادِق م صَدِیقة: پیارا دوست مثل ہے صدیقك من صَدَقَكَ لامن صدَّقَكَ: دوست وہ ہے جو آپ سے سچ بولے وہ نہیں جو آپ کو سچا ٹھہرائے۔ الصِدِّیق جمع صِدِّیقُون: بہت سچ بولنے والا، سچائی میں کامل، عمل سے اپنی بات کو سچا کر دکھانے والا، بڑا نیک، ہمیشہ سچا سمجھنے والا، حضرت ابوبکرؓ کا لقب جو خلفاء راشدین میں سے تھے۔ التصدیق: (مص) تصدیق کرنا، تصدیق، توثیق۔ کہتے ہیں اگر علم حکم سے خالی ہو تو تصور ہے ورنہ تصدیق، اسکی وضاحت یوں ہوگی کہ مثلاً ہم کسی جانور کی طرف دیکھیں اور یہ حکم نہ دیں کہ وہ جانور ناطق ہے یا غیر ناطق تو یہ دیکھنا تصور کہلائے گا لیکن اگر ہم فیصلہ دیں کہ جانور ناطق ہے یا ہنہنانے والا ہے تو ایسا دیکھنا تصدیق کہلائے گا۔ عند المتکلمین و المنطقیین: قابل تصور علم کی ایک قسم جسے بعض علم بھی کہتے ہیں۔ المصداق: جو چیز یا جو شخص کسی شخص کی سچائی کا گواہ ہو۔ المَصْدوقة (مص) سچائی۔

۲۔ صَدَقَ ۔ صُدْقًا و صِدقًا و مَصْدُوقَةً و تَصْدَاقًا فی الحملة: حملہ میں بہادری دکھانا۔ کہتے ہیں۔ صَدَقَ القتالَ و صدق فلانًا القتالَ: اس نے سخت جنگ کی اور سے سخت جنگ کی۔ الصَدْق: (مص) جمع صُدْق و صُدُق و صَدْقُون م صَدْقة جمع صَدْقات: سیدھا ٹھوس نیزہ وغیرہ کہتے ہیں رمحٌ صَدْقٌ و قناة صَدْقة: سیدھا ٹھوس نیزہ۔ (رمح و قناة بمعنی نیزہ) الصِدْق: سختی، مضبوطی۔ تمرٌ صَادِقُ الحلاوة: بہت شیریں کھجور۔ حملةٌ صادقة: سخت حملہ۔ المَصْدَق: کہتے ہیں انه ذو مَصْدَق او ذو مِصْدَق: وہ بہادر جنگجو ہے یا تیز دوڑنے والا ہے وغیرہ۔

۳۔ صَادَقَ علی الشیءِ: کو منظور کرنا، کی اجازت دینا (عام بول چال)۔ الصادقة: کہتے ہیں فَعَله غبَّ صادِقةٍ: یعنی اس نے یہ کام معاملہ واضح ہونے کے بعد کیا۔

۴۔ أَصْدَقَ الابنةَ: بیٹی کا مہر مقرر کرنا۔ الصَدُقة و الصُدْقة و الصَدْقة و الصُدُقة و الصَداق و الصِدَاق جمع أصْدِقة و صُدُق: عورت کا مہر۔

۵۔ تصَدَّق: خیرات دینا۔ علی الفقیر بکذا: غریب کو کوئی چیز بطور خیرات دینا۔ الصِدْق: فضیلت، صلاح۔ الصَدَقة جمع صَدَقات: خیرات۔

صَدَق ۔ صُدْقًا و صِدقًا: سچ کہنا، سچ بولنا، مخلص ہونا۔ صدق ہ عن: کو کے بارے میں حقیقت بتانا۔ صَدَقَ ۔ صُدْقًا و صِدقًا: سچا ثابت ہونا، صحیح نکلنا، صحیح ثابت ہونا۔ — علی: پر بالکل فٹ ہونا، منطبق ہونا، صادق آنا۔ صدق وعده او صدق فی وعده: وعدہ پورا کرنا۔ صدقه النصیحةَ: کو مخلصانہ مشورہ دینا۔ صدقه الحُبَّ: سے سچی مخلصانہ محبت کرنا، بےلوث محبت کرنا۔ صَدَّقَ ہ / ھ: کو قابل یقین سمجھنا۔ ھ: کو سچا سمجھ کر قبول کرنا۔ ہ / ھ: پر یقین کرنا، کو باور کرنا، پر یقین کرنا، پر اعتماد کرنا۔ ھ: کو صحیح سمجھنا، کی صحت کا اعلان کرنا، کے صحیح یا قابل یقین ہونے کا اعلان کرنا۔ ب: پر یقین کرنا۔ — علی: کی منظوری دینا، کی اجازت دینا، پر رضامندی ظاہر کرنا، کو ماننا، ہاں

کہنا، کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر دیکھنا، کو منظور کرنا، کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا کا ثبوت مہیا کرنا، کے لئے حقائق پیش کرنا۔لایُصدَّقُ: ناقابل یقین، ناقابل اعتماد، غیر معتبر، ناقابل اعتبار۔صدّق او کذّب: مانو یا نہ مانو۔صادَقَ ہٗ: سے دوست کا سا سلوک کرنا، سے دوستی رکھنا، کا دوست ہونا یا بن جانا، سے دوستی کا حق ادا کرنا۔علی: پر اپنی منظوری دینا، کو منظور کرنا، ماننا، اجازت دینا، منظوری دینا، پر رضامندی ظاہر کرنا، پسند کرنا، کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، کی تصدیق کرنا، کا ثبوت مہیا کرنا، کے لئے حقائق پیش کرنا۔ـــ علی (دستخطوں وغیرہ کی) تصدیق کرنا۔صدّق ھا: کا حق مہر مقرر کرنا۔تصدّق علی: (کو) خیرات دینا۔علی ب: کو بطور خیرات کچھ دینا، کو بطور عطیہ کچھ دینا۔صِدقاً: خلوص سے واقعی، درحقیقت، حقیقتاً۔صدقۃ جمع صدَقات: خیرات۔خیراتی ٹیکس۔صدقۃ الفطر صدقۂ فطر۔صَداق و صِداق جمع صُدُق و اَصْدِقَۃ: مہر۔صداقۃ جمع صداقات: دوستی۔اَصدقُ برھان علی: کا انتہائی قابل اعتماد یا بہترین ثبوت۔اَصْدَق صدیق: انتہائی وفادار یا بہترین دوست۔مِصْداق: تصدیق، توثیق، کسوٹی، معیار۔سُرعۃُ التصدیق: خوش اعتقادی۔سریع التصدیق: خوش اعتقاد۔ضعیف الاعتقاد۔مُصدَّق: قابل یقین، قابل اعتماد۔غیر مُصدَّق: ناقابل یقین۔مُصدَّقٌ علیه رسمیا: قانونی صورت دیا ہوا، جائز قرار دیا ہوا، سرکاری طور پر تصدیق شدہ۔

صدم: اصدم ـ صَدْماً ہٗ: کو دفع کرنا، دھکیلنا، ہٹانا، کہتے ہیں صدَمَہٗ امرٌ شدیدٌ: ایک سخت معاملہ اس پر آپڑا۔صدَمتُہٗ حُمیّا الکاس: اسے شراب سے نشہ چڑھ گیا۔صادَمَ مُصادَمَۃً ہٗ: کو مارنا۔تصادَمَ و اصطَدَم الفارسان: شہسواروں کا ایک دوسرے کو مارنا اور ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ میں حصہ لینا۔الصَدْمۃ: صدم کا اسم مرۃ: ایک دھکا ایک دفعہ کہتے ہیں صرعۃ بصدمۃ: اس نے اسے ایک دفعہ یا ایکی دھکے میں پچھاڑ دیا۔اعطاہ رزق شھرین صَدمۃً: اس نے اسے دو مہینوں کی روزی ایک ہی مرتبہ دیدی۔رجلٌ مِصدَمٌ: جنگجو بہادر آدمی۔

۲۔الصِدام: (طب) جانوروں کی سر کی ایک بیماری کا نام۔الصَدْمتان و الصِدمتان: پیشانی کے دونوں جانب۔الاُصْدَم: وہ شخص جس کی پیشانی کے دونوں جانب سے بال اڑ گئے ہوں۔

(ج) صَدَمَ ہ / ہ: سے ٹکرانا، سے متصادم ہونا۔ (موٹر، کار وغیرہ کا)۔صدَم ب: (ٹرین کا کار سے) ٹکرانا، سے ٹکر ہونا۔صادَمَ ہ / ہ: سے ٹکرانا، متصادم ہونا، سے مزاحمت کرنا، کی مخالفت کرنا، سے لڑنا، کا مقابلہ کرنا۔صُدِمَ ب: سے سخت دکھ پہنچنا، تکلیف ہونا۔تصادَم: ٹکرانا (گاڑیوں کا) مڈبھیڑ ہونا۔ (فوجوں کا) اختلاف ہونا، متصادم ہونا (مختلف آراء کا)۔اصطَدَم مع / ب: سے ٹکرانا، پر چڑھ دوڑنا۔اصطدم ب: سرنگ وغیرہ سے ٹکرا جانا۔ب: (غلطیوں پر) ناراض ہونا، پر کے خلاف احتجاج کرنا، کی وجہ سے ناکام ہو جانا۔صَدْمۃ جمع صَدَمات: دھکا، ریلا، جھٹکا، ہچکولا، ٹکر، تصادم، صدمہ، گھونسا، مکا، ضرب، چوٹ، ہنگامہ، ہلچل، گڑبڑ، رکاوٹ، مشکل۔صِدام: ٹکر، ٹکراؤ، گرنا، ٹوٹنا، ناکامی۔صدام وجدانی: دماغی، ذہنی، نفسیاتی نقاہت۔مصادمۃ جمع مصادمات: ٹکر، ٹکراؤ، تصادم۔تصادم: ٹکر، ٹکراؤ، برہمی، پریشانی، ہنگامہ، ہلچل، گڑبڑ، اضطراب (نفسیاتی) صدمہ۔اصطدام: ٹکراؤ، برہمی، پریشانی، نفسیاتی صدمہ۔

صدا: صدا ـ صُدُوّاً و صَدّی بیدیہ: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔

صَدِی: اصدِیَ ـ یَصدَی صَدًی: سخت پیاسا ہونا۔صفت صَدٍ و صادٍ و صَدْیان م صَدْیا و صادِیۃ جمع صَوادٍ: کہتے ہیں انا صَدْیانٌ الی حدیثک۔لی احشاء صَوادٍ الیک: مجھے تمہاری باتیں سننے کی سخت خواہش ہے۔الصَدَی جمع اصداء: سخت پیاس۔

۲۔صَدِیَ یَصدَی صَدَی الشیءُ: لمبا ہونا، طویل ہونا۔

۳۔صدّی تصدیۃ بیدیہ: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔اَصْدَی اصداءً: مرنا۔ـــ الجبلُ: پہاڑ کا گونجنا۔الصَدَی جمع اَصداء: صدائے بازگشت۔(اسی سے ہے اسرعُ من رجع الصدی: وہ صدائے بازگشت سے بھی زیادہ تیز ہے)۔انسانی لاش کہتے ہیں ھم الیومَ اعداءٌ وھم غداً أصداء: وہ آج دشمن ہیں کل لاشیں ہوں گے۔یعنی مرجائیں گے۔صمَّ صداہ: وہ ہلاک ہوگیا گویا کچھ نہیں سنتا کہ جواب دے۔اصمَّ اللّٰہُ صداہ: اللہ اسے ہلاک کرے)۔دماغ، سر میں جو کچھ بھرا ہوا ہے۔(ح): ایک بڑے سر کا الو جو تاریک ویرانوں میں رہتا ہے۔اسے ہامہ بھی کہا جاتا ہے۔عربوں کا خیال تھا کہ جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کے سر سے ایک الو پیدا ہوتا ہے جو اس کے سر پہ کہتا رہتا ہے مجھے پلاؤ، مجھے پلاؤ، تا آنکہ اس کے قاتل کو قتل کردیا جائے۔

۴۔صادَی مُصاداۃً ہٗ: کا مقابلہ کرنا، کے گرد چکر لگانا، کو چھپانا۔تصدّی لہ: کے درپے ہونا، سامنے آنا۔للامر: کسی معاملہ کے لئے متوجہ ہونا۔الصدَی جمع أصداء: تعرض کہتے ہیں۔صنعت صداہ: اس کا تعرض روک دیا گیا۔

(ج) أصدی: گونجنا، واپس مرتعش ہونا۔تصدّی ل / الی میں مشغول رہنا، لگا رہنا، کی طرف متوجہ ہونا، کو تن دہی سے کرنا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑہ اٹھانا، کا آغاز کرنا۔ل: کی مخالفت کرنا، مزاحمت کرنا، کا توڑ کرنا، کا دفعیہ کرنا، کو دشمن بنانا، بیری بنانا، کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا، کے راستہ میں حائل ہونا۔تصدیۃ: تالی بجانا۔

صرّ: اصرّ ـ صَرّاً الصُرّۃ: تھیلی کا منہ باندھنا۔الدراھمَ فی الصُرّۃ: درہموں کو تھیلی میں رکھنا۔الناقۃَ و بالناقۃ: اونٹنی کے تھن باندھنا تا کہ اس کا بچہ دودھ نہ پی سکے۔الصارّ (فا)۔شجرۃ صارّۃ: گنجان درخت۔الصارّۃ جمع صوارّ: صارّ کا مونث۔الصَرّ (ت): تھیلی میں بند رقم جو مختلف اداروں کو بھیجی جاتی ہے۔الصرّۃ: ترش روئی۔الصُرّۃ جمع صُرَر: تھیلی، بٹوہ۔الصِرار جمع اَصِرّۃ: اونٹنی کے تھن باندھنے کی ڈوری۔الصرّار: صار کا اسم مبالغہ۔الصَریرۃ جمع صرائر: تھیلی میں رکھے ہوئے درہم۔المِصَرّ: بٹوہ۔المَصار: آنتیں۔المصرور (مفع): بندھا ہوا قیدی۔

۲۔صرَّ ـ صَرّاً الفرسُ اُذُنَہٗ و باذُنِہ: گھوڑے کا سننے کے لئے کان کھڑے کرنا۔صرّر اُذُنَہٗ: سننے کے لئے کان کھڑے کرنا۔ـــت الناقۃُ: اونٹنی کا آگے بڑھنا۔أصرّ الفرسُ اُذُنَہٗ و باذُنِہ: گھوڑے کا سننے کے لئے کان کھڑے کرنا۔السنبلُ: خوشوں کا خار نکالنا۔الصَرَر: جس کا واحد صَرَرۃ: ہے۔بالیاں جو اپنے خار نکال رہی ہوں۔

۳۔صرّ ـ صَرّاً و صَریراً الشیءُ: چوں چوں کرنا۔الرجُلُ: زور سے چلانا۔ـــتِ الأذنُ: کان بجنا۔ریح صِرٌّ: سخت آواز والی ہوا۔الصَرّۃ: شور وغل، چیخ و پکار، جنگ یا گرمی وغیرہ کی شدت۔الصِرّۃ: زور کی چیخ۔صرّار اللیل: (ح) جھینگر۔الصَرّارۃ: (ح) سانپ کھانے والا ایک قسم کا عقاب۔ابو صُوَیٰ: کے نام سے معروف ہے۔

۴۔صرّ ـ صرّاً و صَریراً الرجُلُ: پیاسا ہونا، پیاس لگنا۔الصارّۃ جمع صَوارّ: پیاس۔

۵۔ صُرَّ النبات: پودے کو ٹھنڈی ہوا کا مار جانا۔ الصِرّ و الصِرَّة: ٹھنڈ۔ ریحٌ صِرٌّ: سخت ٹھنڈی ہوا۔

۶۔ اَصَرَّ علی الامر: پر جما رہنا، اصرار کرنا، اکثر برے معنی میں مستعمل ہے۔ کہتے ہیں۔ اَصَرَّ علی الذنب: وہ گناہ سے نہیں ٹلا۔ صِرّیٰ: کہتے ہیں۔ ھی منی صِرّیٰ: وہ میرا پختہ ارادہ ہے۔ یمینٌ صِرّیٰ: پختہ قسم۔ الصَرُور و الصارُور و الصَرُورِیّ و الصارُورِی: کنوارا یا جس نے حج نہ کیا ہو۔ الصارَة و الصَرُور و الصارُورَة و الصارُوراء: جس نے حج نہ کیا ہو یا شادی نہ کی ہو۔ واحد اور جمع دونوں کے لئے آتا ہے۔

۷۔ صارَّ مُصارَّةً علی کذا: کو پر مجبور کرنا۔

۸۔ الصَرَّة: جماعت، گروہ، تعویذ کے مہرے۔ المصارَّة جمع صَوارّ: ضرورت، حاجت۔ الصِرار جمع اَصِرَّة: بلند جگہ جہاں پانی نہ چڑھ سکے۔ الصَرارِیّ جمع صَرارِیون: ملاح۔

۹۔ صَرَّ صَرَّ الصُرَدُ او الصقرُ: لٹورے یا شکرے کا آواز نکالنا۔ الرجلُ: زور سے چلانا۔ الصَرصَر: (ح) مُرغ۔ من الریاح: تیز چلنے والی ہوا یا بہت ٹھنڈی ہوا۔ —— و الصُرصُر جمع صَراصِر و الصُر صور جمع صَواصِیر: (ح) جھینگر۔

۱۰۔ صَرصَرَ الشیءَ: چیز کے منتشر اطراف کو جمع کرنا۔

۱۱۔ الصُرصُور: کشتی۔

۞ صَرَّ ـِ صَرًّا و صَرِیراً: (جھینگر کا) چیں چیں کرنا، چوں چوں کرنا، چہچہانا۔ (دروازہ کا) چر چرانا، چیخنا، چوں چوں چیں کرنا، چڑ چڑ کرنا، ناگوار شور کرنا، ناگوار آواز پیدا کرنا، خراش کی آواز دینا، دانت پیسنا، دانت کٹکٹانا، دانت بجنا۔ -- ہ: کا تسمہ باندھنا، کو رسی سے جکڑنا، باندھنا، کی مشکیں کسنا۔ —— ہ فی: زر و پیسہ بٹوہ میں دھکیلنا یا رکھنا۔ —— ہ / ب: کان کھڑے کرنا۔ صُرَّة جمع صُرر: زر و پیسہ رکھنے کی تھیلی، بٹوہ، پلندا، گٹھری، گٹھر، پوٹلی، پیکٹ، ڈبیہ، بقچہ، پارسل۔ الصُرَّة یا صُرَّة الحرمین: فنڈ جو مختلف اسلامی ممالک حج کے قافلہ کے ساتھ بھیجا کرتے تھے تاکہ مکہ معظمہ اور مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے، آج کل یہ فنڈ مصر اور تونس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ امین الصرة: صرہ کا متولی جو اسکی سپردگی کا ذمہ دار ہے۔ صُرَّة النقود: بھیجی ہوئی رقم۔ صریر: چہچہانا۔ چوں کرنا، چیں چیں کرنا، ناگوار آواز سے چیخنا، چڑ چڑ کرنا۔ صَرار یا صرار اللیل: جھینگر۔ صریرة: بٹوہ میں رکھے ہوئے سکے۔ اصرار علی: پر ثابت قدمی، استقلال، مستقل مزاجی، اصرار۔ سَبْقُ الاصرار: پہلے سے ہی قائم کردہ سوچ سمجھ، دانستگی، ضد، خود رائی، خود سری، سرکشی۔ مُصِر: پڑا ہوا، جما ہوا، مُصِرّ: پختہ ارادہ کئے ہوئے، باعزم۔ الصِرب: صربیا، صرب، صربیا والے، صرب باشندے۔ صِربی: صربیا کا۔

صرب: ۱۔ صَرَبَ ـِ صَرْبًا: کاٹنا، دودھ کو ترش بنانا۔ پیشاب یا دودھ کو روکنا۔ الصبیُّ: بچہ کا کئی دن پیشاب نہ کرنا۔ صَوَّبَ ـَ صَرَبًا اللبنُ: دودھ کا تھنوں میں جمع ہونا۔ صَرَّبَ: نہایت ترش دودھ کھانا یا پینا۔ اِصْطَرَبَ اللبنَ فی الوطب: دودھ کو ترش کرنے کے لئے برتن میں تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا۔ الصَرْبُ و الصَرَب: بہت ترش دودھ واحد صَرْبَة و صَرَبَة۔ الصِرب: غریب عربوں کے تھوڑے سے گھر۔ الصَرِیب جمع صُرُب: ترش دودھ۔ المَصْرُوب (مفع): جمع کیا ہوا کھٹا دودھ۔ المِصْرَب جمع مَصارِب: وہ برتن جس میں دودھ جمع کیا جاتا ہے۔

۲۔ صَرَبَ ـِ صَرْبًا: کمانا۔ اَصْرَبَ الیه مالا: کو مال دینا۔

۳۔ اِصراَبَّ الشیءُ: چیز کا صاف اور چکنا ہونا۔

۴۔ الصَرْبُ و الصَرَب واحد صَرْبَة و صَرَبَة: سرخ گوند، ببول کا گوند۔

صرج: صَرَّجَ الحوضَ: حوض کو چونا مٹی ملا کر بنانا۔ الحوضَ بالنورة: حوض پر چونے کی قلعی کرنا۔ الصاروج: چونا مٹی ملا ہوا (فارسی)

صرح: ۱۔ صَرَحَ ـَ صَرْحًا الامرَ: کو ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ صَرُحَ ـُ صَراحَةً و صُرُوحَةً: صاف ہونا، خالص ہونا، واضح ہونا صفت صریح جمع صُرَحاء م صَرِیحَة اسی سے ہے۔ رجلٌ صریحُ النسب: خالص نسب والا آدمی۔ جاءَ بنو فلان صریحة: بنو فلاں آئے، جن (کے نسب) میں دوسرے لوگ گڈ مڈ نہیں ہوئے۔ صَرَّحَ الامرَ: کو واضح کرنا، ظاہر کرنا۔ الامرُ: واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ المتکلّمُ: متکلم کا صاف صاف کہنا۔ بما فی نفسه: متکلم کا اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنا۔ النهارُ: دن میں بادل ہٹ کر دھوپ نکل آنا۔ —— الخمرُ: شراب کی جھاگ دور ہونا۔ ایک مثل ہے: صَرَّحَ الحقُّ عن محضِه: یعنی حق پوشیدگی کے بعد واضح ہو گیا۔ ت السَنَةُ: کال پڑ جانا اور سختی اور تنگی کے علاوہ کچھ نہ رہنا۔ صارَحَ صِراحًا و مُصارَحَةً: ہ سے صاف صاف کہنا، کہتے ہیں۔ شتمه مُصارَحَةً و صراحًا: اس نے اسے رودررو گالی دی۔ بما فی نفسه: دل کی بات کو ظاہر کر دینا۔ اَصْرَحَ الامرَ: کو بیان کرنا۔ تَصَرَّحَ الزبدُ عن الخمر: شراب پر سے جھاگ دور ہونا۔ انصَرَحَ الحقُّ: حق ظاہر ہونا، منکشف ہونا۔ الصَرح: (مص) جمع صُرُوح: قصر، محل، ہر بلند عمارت۔ الصَرحَة جمع صَرَحات: اسم مرة، سخت زمین۔ صَرحَةُ الدار: گھر کا صحن۔ خرج لهم صَرحَةً: وہ نمایاں طور پر ان کے سامنے آیا۔ الصَرح و الصَراح و الصِراح و الصُراح: ہر خالص شئے کہتے ہیں۔ کاسٌ صراحٌ: پیالہ جس کے مسالہ میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ الصَراحَة و الصُرُوحَة: خلوص، وضاحت۔ الصُراحِیَةُ من الخمر: خالص شراب کہتے ہیں۔ کذبٌ صُراحِیَةٌ: کھلا جھوٹ جسے سب لوگ جانتے ہیں۔ اَتاهُ بالامر صُراحِیَةً: وہ اس کے پاس خالص معاملہ لیکر آیا۔ الصُراحِیّ: واضح، ظاہر۔ الصُراحِیَّة: شراب کا برتن۔ یومٌ مُصَرِّحٌ و مُصَرَّحٌ: وہ دن جس میں ابر نہ ہو، صاف مطلع والا دن۔

۲۔ صَرَّحَ الرامی: تیر انداز کا نشانہ خطا کرنا۔

۞ صَرُحَ ـُ صَراحَةً و صُروحة: خالص، بے ملاوٹ اور صاف ہونا یا ہو جانا۔ صَرَحَ ـَ و صَرَّحَ ہ: کو واضح کرنا، کی تشریح کرنا، توجیہ کرنا۔ صَرَّحَ ہ: کو واضح کرنا، کی تشریح کرنا، توجیہ کرنا، کی توضیح کرنا۔ -- ب: کا اعلان کرنا، کو وضاحت سے کہنا، بیان کرنا، اظہار کرنا، کے متعلق بیان دینا۔ ب/ عن نے کے متعلق کھل کر کہنا، کے متعلق واضح ہونا، صریح ہونا، قطعی ہونا۔ —— عن / ب: کو معلوم ہونے دینا۔ ل ب کو کی اجازت دینا، کچھ عطا کرنا۔ -- ب: کا لائسنس دینا، کا پرمٹ دینا، لائسنس دینا۔ صارَحَ: کھل کر کہنا۔ ب: کے متعلق کھل کر کہنا، کے متعلق واضح ہونا، صریح ہونا، قطعی ہونا، کو علی الاعلان کہنا، کو معلوم ہونے دینا۔ ہ اَن: کو بیان دینا کہ۔ اَصْرَحَ ہ: کو واضح کرنا، کی توضیح کرنا، کی تشریح کرنا، توجیہ کرنا۔ تَصارَحَ: واضح ہونا، ظاہر ہونا، آشکار ہونا، معلوم ہونا، پتہ چلنا۔ انصرح: واضح ہونا، ظاہر ہونا، آشکار ہونا۔ صُراح: خالص، بے ملاوٹ کا واضح، بین صاف۔ صریح، ظاہر، غیر مبہم، کھلا۔ اَصْرَح: زیادہ، خالص، واضح اور مخلص۔ تصریح جمع تصریحات و تصاریح: بیان، اعلان، اجازت (سرکاری) پرمٹ، لائسنس۔

صرخ: ۱۔ صَرَخَ ـُ صُراخًا و صریخًا: زور سے چیخنا، فریاد کرنا، عوام کہتے ہیں۔ "صرخ" له یعنی اسے پکارا۔ تصرَّخ: بتکلف چیخنا۔ تَصارَخَ القومُ: ایک دوسرے کو چلا کر پکارنا اور مدد چاہنا۔ اصْطَرَخَ الرجُلُ:

زور سے چیخنا۔ — القومُ: ایک دوسرے کو چلا کر پکارنا اور مدد چاہنا۔ اسْتَصْرَخَ ہٗ: کو چیخنے پر اکسانا، سے مدد طلب کرنا۔ الصارخ: مرغا۔ الصَّارِخة: صارخ کا مونث، استغاثہ۔ فریاد رسی، داد خواہی، داد خواہی کی آواز۔ آپ کہتے ہیں: سمعت صارخةَ القوم: یعنی میں نے لوگوں کی آواز سنی جو مدد کے لئے پکار رہے تھے۔ الصَّرَّاخ: بہت چیخنے والا (ح) مور۔ الصاروخ: (ا ع) راکٹ (Rocket)، میزائل (missile)
الصریخ (مص) جمع صُرَخاء: فریادرس، دادخواہ۔

۲۔ صَرَخَ - صُراخًا و صریخًا القومَ: لوگوں کی فریاد رسی کرنا، مدد کرنا۔ الصارِخَة: مدد۔ الصریخ: (مص) جمع صُرَخاء: فریادرس، دادخواہ۔

◯ صَرَخَ - صُراخًا و صَریخًا: چیخنا، چلانا، پکارنا، چیخ مارنا، چلا کر کہنا، مدد کے لئے پکارنا۔ — ب: کو بلانا۔ -- علی کو پکارنا۔ -- فی / فی وجهہ: کو پکارنا، چیخ کر بلانا کو زور سے کہنا۔ اسْتَصْرَخَ: مدد کے لئے چلانا۔ -- ہ: کو مدد کے لئے بلانا۔ صَرْخَة جمع صرخات: چیخ، زور کی چیخ، مدد کی پکار۔ صاروخ جمع صواریخ: راکٹ، سائرن۔ صاروخ عابرُ القارات: بین البر اعظمی منجنیقی میزائل۔ قنبلة صاروخية: راکٹ بم۔ گائڈڈ میزائل صارخ: بھڑکیلا، زرق برق (رنگ) خیرہ کن (رنگ، روشنی) اکھڑ ناشائستہ، بازاری، غیر مہذبانہ، پست، شور مچانے والا، پرشور، آسمان سر پر اٹھانے والا، چلانے والا، پکارنے والا۔

صرد: ۱۔ صَرِدَ - صَرْدًا السهمُ: تیر کا نشان پر نہ لگنا، تیر کا نشانہ پر لگنا (ضد) تیر کا نشانہ پر بیٹھنا۔ صَرَدَ - صَرْدًا الرامی السهمَ: تیرانداز کا تیر کو ٹھیک نشانہ پر بٹھانا۔ اَصْرَدَ السهمُ: تیر کا نشانہ خطا کرنا۔ — الرامی السهم: تیرانداز کا تیر کو ٹھیک نشانہ پر بٹھانا۔ الصَّرَد: بھالے کی کیل جس میں نیزہ لگایا جاتا ہے۔ الصارِد (فا) سهمٌ صارِدٌ: نشانہ پر لگنے والا تیر۔ سهمٌ مِصْرادٌ و سهمٌ مُصَرِّدٌ: نشانہ پر لگنے والا تیر۔

۲۔ صَرِدَ - صَرَدًا الرجُلُ: آدمی کا سردی برداشت کرنے میں مضبوط ہونا، سردی برداشت کرنے میں کمزور ہونا (ضد) الصَّرْد: سردی، پہاڑ میں اونچی جگہ۔ یومٌ صَرْدٌ جمع صُرُود: ٹھنڈا دن کہتے ہیں۔ مات صردًا: یعنی وہ سردی کی شدت سے مر گیا۔ ارضٌ صَرْدٌ جمع صُرُود: سرد زمین۔ اس کے مقابل جُرُوم ہے جس کا معنی گرم خطے (زمین کے) ہے الصَّوَارِد: سرد ہوائیں۔ الصَّرِد من الرجال جمع صَرْدَى: سردی برداشت کرنے والا، سردی برداشت نہ کرنے والا (ضد) یومٌ صَرِدٌ: بہت سرد دن۔ الصَّرَّاد و الصُّرَّيْد: پانی سے خالی پتلا بادل۔ نعجة صُرَيِّدة جمع صرائد: سردی کھائی ہوئی بھیڑ۔ المِصْراد: سردی برداشت کرنے والا، سردی برداشت نہ کرنے والا (ضد)

۳۔ صَرِدَ - صَرَدًا السقاءُ: سے جھاگ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنا، کہتے ہیں: صَرِدَ قلبی عنہ: میرا دل اس سے کھنچ گیا۔ صَرَّدَ الشیءَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ العطاءَ: بخشش کم دینا۔ — الرجُلَ: کو تھوڑا پانی دینا جس سے وہ سیر نہ ہو۔

۴۔ الصَّرْد: ہر خالص شے (کہتے ہیں۔ سقاه الخمرَ صَرْدًا: اس نے اسے خالص شراب پلائی۔ اَحَبَّهٗ حُبًّا صَرْدًا: اس نے اس سے بے لوث محبت کی۔) (ا ع): بڑا لشکر۔ الصَّرَد (ا ع): بڑا لشکر۔ الصُّرَد جمع صِردان: موٹے سر سفید پیٹ اور سبز پیٹھ کا ایک پرندہ جو چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے، لٹورا۔ الصَّرِد من الخیل جمع صَرْدَى: وہ گھوڑا جس کی پیٹھ زمین سے لگ گئی ہو۔ الصُّرَدان (ع ا): زبان کے نیچے کی دو رگیں۔ المِصْراد: درخت سے خالی زمین۔ المُصْطَرِد: سخت غصہ والا۔

◯ صَرْد: سخت سردی (کی لہر) صُرَّاد: بہتے یا اڑتے ہوئے بادل۔ صُرَّيْد: بہتے یا اڑتے ہوئے بادل۔

صرط: الصِّرَاط جمع صُرُط: راستہ (یونانی) الصُّراط: لمبی کاٹنے والی تلوار۔

صرع: ۱۔ صَرَعَ - صَرْعًا و صِرعًا و مَصْرَعاةً: کو زمین پر گرانا۔ صُرِعَ الشجرُ: درخت کا کاٹ کر ڈالا جانا۔ صَرَّعَ ہٗ: کو زور سے گرانا۔ صَارَعَ صِراعًا و مُصَارَعةً ہٗ: سے کشتی لڑنا۔ تَصَرَّعَ لصاحبه: اپنے ساتھی کے آگے عاجزی کرنا کہتے ہیں۔ ما زلت اتصرَّع له والیه حتی اجابنی: یعنی میں برابر اس سے عاجزی کرتا رہا حتی کہ اس نے میری بات مان لی۔ تَصَارَعَ واصطرع الرجلان: باہم کشتی لڑنا۔ انْصَرَعَ: پچھڑنا، گرنا۔ الصِّرْع جمع اَصْرُع و صُرُوع: کشتی لڑنے والا کہتے ہیں۔ هما صِرعان: وہ دونوں باہم کشتی لڑنے والے ہیں۔ الصَّرْعة۔ صَرع کا اسم مرة۔ الصُّرَعة: جسے لوگ اکثر پچھاڑ دیں۔ الصُّرَعة: بردباری۔ حِلم -- و الصَّرَّاع والصُّرَّاعة و الصِّرِّيع: جو لوگوں کو اکثر پچھاڑ دیتا ہے کہتے ہیں۔ قوم صُرَعَة: وہ لوگ جو اپنے ساتھ کشتی لڑنے والوں کو پچھاڑ دیں۔ الصِّراعة: کشتی لڑنے کا فن۔ الصروع جمع صُرُع بمعنی صَرَّاع، الصَّرِیع جمع صَرْعَى: پچھاڑا ہوا، مجنون۔ (بات صریع الکاس: یعنی اس نے مجنون ہو کر رات گزاری) جمع صُرُع: درخت کی جھکی ہوئی شاخ۔ المَصْرَع: (مص) پچھاڑنے کی جگہ، اکھاڑہ۔

۲۔ صَرَعَ - صَرْعًا و صِرْعًا و مَصْرَعًا الشِّعرَ او البابَ: شعر کو دو مصرعوں اور دروازہ کو دو کواڑوں والا بنانا۔ صَرَّعَ الشعرَ او البابَ: شعر کو دو مصرعوں یا دروازہ کو دو کواڑوں والا بنانا۔ الصِّرْع جمع اَصْرُع و صُرُوع: مثل، مقابل، قسم حالت کہتے ہیں۔ هو صِرعَ کذا: وہ اس کے مقابل ہے۔ الصَّرْعان: رات اور دن، صبح و شام کہتے ہیں: اتیته صَرْعَی النهار: یعنی میں صبح و شام اس کے پاس آیا۔ هو ذو صَرْعین: یعنی وہ دو رنگ کا ہے۔ ترکتهم صَرْعَین: میں نے انہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہوئے چھوڑا۔ الصِّرْع: (مص) جمع اَصْرُع و صُرُوع: مثل، قسم حالت۔ الصَّرْعة: حالت کہتے ہیں: یفعله علی کل صَرْعة: وہ اسے ہر حال میں کرتا ہے۔ المصراع من الباب جمع مصاریع: دروازہ کا ایک پٹ، عوام کی زبان میں (دَرْفَة) — من الشِعر: شعر کا ایک مصرعہ (نصف بیت)

۳۔ صُرِعَ: مرگی کی بیماری والا ہونا۔ الصَّرْع جمع اَصْرُع و صُرُوع: (طب) مرگی، عوام کے نزدیک سخت درد سر۔ الصَّرِیع جمع صَرْعَی: مجنون۔ المَصْرُوع: (مفع) غیر محتاط، بہکا ہوا (عام بول چال)

◯ صَرَعَ - صَرْعًا و صِرْعًا و مَصْرَعاةً: کو نیچے گرانا، زمین پر پچھاڑنا۔ صُرِعَ: مرگی والا ہونا، کو مرگی کا دورہ پڑنا، پاگل ہونا یا ہو جانا۔ صَارَعَ ہٗ: سے کشتی لڑنا، لڑنا۔ تصارع: ایک دوسرے سے کشتی لڑنا۔ اِنصرع: پاگل ہونا یا ہو جانا۔ صَرْع: مرگی صُرُع: لگام rein صَرِیع جمع صَرْعَی: زمین پر گرایا ہوا، مرگی والا، پاگل دیوانہ۔ صَرِیع ب: کا شکار۔ سقط صریعًا: (لڑائی میں) مارا جانا۔ صریعُ الشراب: شراب کا عادی۔ صریع الکَرَی: نیند سے مغلوب۔ مَصْرَع جمع مَصَارِع: میدان جنگ، تباہی، خاتمہ، بربادی، ستیاناس، موت، مہلک حادثہ، جان لیوا واقعہ، جسم کا عضو رئیس (جس کا زخم یا چوٹ موت کا باعث ہو سکتی ہے) مِصْرَاع جمع مَصَارِیع: دروازہ کا ایک پٹ۔ صفائح المصراع: دروازہ کا منقش تختہ۔ الباب مفتوح علی مصراعیه: دروازہ چوپٹ کھلا

ہے۔صِراعَ: کُشتی، کُشتی کا مقابلہ لڑائی، جدوجہد کشمکش۔
اصطراع: لڑائی، جدوجہد کشمکش، نزاع لڑائی جھگڑا، آویزش، مباحثہ، قیل وقال۔مَصروع: زمین پر گرایا ہوا، پچھا ہوا، پچھاڑا ہوا، مرگی والا، پاگل، دیوانہ۔

صرف: ا۔صَرَفَ ۔ِصَرفًا ہٗ: کو واپس کرنا، ہٹانا۔الکلمۃ: کلمہ پر جر و تنوین لانا کہتے ہیں۔صرف اللّٰہ قُلوبَھم: اللہ ان کے دلوں کو گمراہ کردے۔صرّفَ ہٗ: صَرَفَہ: کا مبالغہ۔ اللّٰہُ الریاحَ: اللہ تعالی کا ہواؤں کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دینا۔ہٗ فی الامر: کے سپرد کوئی کام کرنا۔صارَفَ نفسَہٗ عنِ الشیءِ: اپنے آپ کو کسی چیز سے باز رکھنا۔أصرَفَ ہٗ عن کذا: کو سے دور کرنا، ہٹانا۔تصرّفَ فی الامر: کسی معاملہ کا خود مختاری سے انتظام کرنا، بندوبست کرنا یا اسے چلانا۔تصرّفت بہ الاحوالُ: گردش ہائے زمانہ کا کسی پر قابو پالینا۔انصرفَ الرجلُ: واپس ہونا یا باز رہنا۔انصرفت الکلمۃُ: کلمہ کا منصرف ہونا۔اصطَرَفَ: کسب معاش کے لئے چلنا پھرنا۔

استصرف اللّٰہ المکارہَ: اللہ سے دعا کرنا کہ وہ تکالیف دور کردے۔الصَّرفُ (مص): ایک علم کا نام جس میں کلمات عربیہ کے صیغوں کی وضع وہیئت سے بحث کی جاتی ہے۔صرفُ الدھرِ و صُرُوفُہٗ: زمانہ کی گردشیں یا حادثات۔الصَّرفۃ: ایک منکا کو تعویذ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔(فلک) چاند کی ایک منزل۔الصَّرفان والصِرفان: رات اور دن۔

الصَّرفان: موت۔الصرّاف والصَّرفی: علم صرف جاننے والا۔الصَّریف والمَصرُوف: درخت کا خشک شدہ حصہ۔الصَّریفۃ: مونث جمع صُرُف وصِراف و صریف: درخت خرما کی خشک شاخ۔

تصاریف الدھر: زمانہ کی گردشیں اور حادثات۔المُتَصرِّف: ایک صوبہ کا حاکم۔المُتَصرِّفِیّۃ: صوبہ، گورنری کا عہدہ۔

۲۔صَرَفَ ۔ِصَرفًا الدنانیر: دیناروں کو درہموں یا دوسرے دیناروں سے بدلنا۔المالَ: مال خرچ کرنا۔صرّفَ الشیءَ: چیز کو بیچنا۔ الماءَ: پانی جاری کرنا۔الدراھمَ: درہموں کو بدلنا۔الکلامَ: بات سے بات نکالنا۔صارفَ ہٗ: کا مبادلہ کرنا۔اصطرفَ الدراھمَ: درہموں کو بدلنا۔آپ کہتے ہیں۔اصطرفتُ ھذہ الدراھم بدینار: یعنی میں نے یہ درہم ایک دینار سے تبدیل کئے۔الصَّرفُ: فضیلت کہا جاتا ہے لہ علیَّ صَرفٌ: اس کو مجھ پر فضیلت ہے۔صَرفُ المالِ: مال کا خرچ کرنا۔الحدیثَ اور الکلامَ: کلام یا حدیث میں زیادتی اور اسکی تحسین (آرائش)۔الصَّرفۃُ: اسم مرۃ۔الصِّرافۃ: صراف کا پیشہ۔الصرّاف و الصَّیرَف و الصَّیرَفی: نقدی کی تجارت کرنے والا۔

۳۔صَرَفَ ۔ُصَرفًا الشرابَ: شراب میں آمیزش نہ کرنا یا خالص شراب پینا۔صَرّفَ الخمرَ: خالص شراب پینا یعنی بغیر آمیزش کے۔الصِّرفُ: ہر خالص چیز، یعنی آمیزش کے بغیر چیز، سرخ گوند۔الصَّریف: خالص چاندی۔والمصروف: ہر خالص چیز۔

۴۔صَرَفَ ۔ُصَریفًا البابُ: دروازہ کا کھولتے یا بند کرتے پر چرچرانا۔بنابہ: دانت پیسنا، دانت پیسنے پر کٹکناہٹ کی آواز سنائی دینا۔الصَّرُوفُ: وہ اونٹ جس کے دانت پیسنے کی آواز آئے۔صریفُ الباب: دروازہ کی چرچراہٹ۔صَریفُ القلمِ: قلم چلنے کی آواز۔

۵۔الصَّرَفۃ: اونٹنی کو صبح کے وقت دودھ کردوسری آنے والی صبح تک چھوڑ دینا۔الصَّرفان: تانبا، سیسہ۔

◯ صَرَفَ ۔ِصَرفًا: مڑنا۔ ہٗ عن: کو سے موڑنا، ہٹانا، پھیرنا۔ ہٗ عن: کو سے روکنا، باز رکھنا، دور رکھنا، برگشتہ کرنا، بیگانہ کرنا، سے موڑنا، پھیرنا، خیال ہٹانا، توجہ ہٹانا۔ ہ الی: (توجہ، نگاہ) کی طرف پھیرنا۔ ہ: کو رخصت کردینا، برطرف کرنا، دور بھیجنا، کو چلتا کرنا۔ ہ علی: کے لئے روپیہ وغیرہ خرچ کرنا۔ علی: کا خرچ چکانا، خرچ ادا کرنا، کی ادائگی کرنا۔ ہ ل: کو روپیہ ادا کرنا۔ ہ: کوئی چیز جیسے ٹکٹ جاری کرنا، کچھ جیسے پرمٹ لکھنا۔ ہ فی / الی / ل: پر (وقت، کوشش وغیرہ) صرف کرنا، نذر کرنا، وقف کرنا، مخصوص کرنا۔
ہ فی: پر یا کچھ کرتے ہوئے وقت گزارنا، خرچ کرنا۔
— ہ: (روپیہ) تبدیل کرنا۔ — ہ: کی گردان کرنا۔
صرف النظر عن: سے نظر ہٹانا۔موڑنا، پھیرنا، کو نظر انداز کرنا، کی پروانہ کرنا، کا لحاظ نہ کرنا، پر کوئی توجہ نہ دینا، پر غور نہ کرنا۔صرف ۔ِصریفًا: چرچرانا، چوں چوں کرنا، ناگوار شور کرنا۔صرّفَ ہ: پانی بہانا، نکالنا۔— ہ: بھیجنا، جلدی کرنا (کاروبار) ختم کرنا، کا دیوالہ نکالنا۔ہ: روپیہ تبدیل کرنا۔ ہ: مال تجارت کا منڈی لانا، کو پھنکل بیچنا، تقسیم کرنا، پھیلانا، فروخت کرنا، بیچنا۔ ہ فی: کو میں کھلی چھٹی دینا۔ ہ: (فعل) کی گردان کرنا، اسم کو منصرف بنانا۔تَصرّفَ: آزادی سے عمل کرنا، کام کرنا، (پر) انتظام کرنے کا حق رکھنا۔فی: میں آزادی سے حرکت کرنا، کسی پابندی کے بغیر کام کرنا، کو آزادی سے چلانا، کا آزادی سے انتظام کرنا۔

تَصَرَّفَ تصرفًا کیفیًا فی: میں من مانی کرتے رہنا۔انصَرَفَ: جانا۔عن: سے دور جانا، سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، کو ترک کرنا۔ بہنا۔الی: توجہ کی طرف مبذول کرنا، کچھ کرتے رہنا، کو تن دہی سے کرنا، کسی کام میں لگ جانا۔— جاری ہونا، ضروری ہونا۔انصرف الی نفسہ: اپنے آپ کو تنہا کرنا، علیحدہ کرنا، الگ تھلگ کرنا۔انصرف یفعل: کچھ کرنے لگنا۔صروف و صروف الدھر: زمانہ کے مصائب، آفات، ادبار، نحوست۔محطۃ الصرف: پاور سٹیشن، ڈرینج سٹیشن، پمپنگ اسٹیشن۔سعر الصرف: نرخ مبادلہ۔ممنوع الصرف: غیر منصرف۔

بصرف النظر عن: سے قطع نظر کے باوجود۔صُرفیات: ادائیگیاں۔صریف: چیں چوں کرنے والا، چرچراتا ہوا۔صرّاف: نقدی کی تجارت کرنے والا، خزانچی، زرشمار، خازن، معتمد، ساہوکار۔صرّافۃ: خاتون خزانچی۔صرافۃ التذاکر: خاتون ٹکٹ ایجنٹ۔

صَیرَف جمع صَیارِف: نقدی کی تجارت کرنے والا، خزانچی، زرشمار، خازن۔صَیرَفی: نقدی کی تجارت کرنے والا، خزانچی، زرشمار، خازن۔صَریفۃ جمع صَرائف: نرسلوں کی چٹائی سے بنی ہوئی جھونپڑی۔

مَصرِف جمع مَصارِف: گندے پانی کے نکاس کا نالہ، کھائی، نالی، بینک، دفتر ادائگی، زرشمار کی کھڑکی (بینک میں)۔تصاریف الدھر: زمانہ کے نشیب وفراز، تغیرات۔تصریفُ الشؤون: معاملات کا تصفیہ، یا انتظام۔تصرفات: اقدامات، ترتیبات، قواعد، ضوابط۔تصرف منُجز: فوری طور پر موثر ضابطہ۔حسن التصرف: اختیار۔مطلقُ التصرف: کام نپٹانے کا غیر محدود حق رکھنے والا۔بتصرف: آزادانہ۔تحت تصرفہ: کے ہاتھ میں، کے سپرد کی تحویل میں۔وضع شیئاً تحت تصرفہ: کوئی چیز کسی کے تصرف میں دینا۔تصرفات الزمن: زمانہ کے نشیب وفراز، تغیرات۔مصروف (الی): کے لئے وقف۔ہ: خرچ کی ہوئی رقم، خرچ۔جمع مصروفات و مصاریف: اخراجات۔مصروف البرید و مصاریف البرید: محصول ڈاک، ٹکٹ۔مصروف الجیب: جیب خرچ۔خالص المصاریف: بغیر محصول ڈاک، مشینی ٹکٹ لگا ہوا۔وَفی المصاریف: اخراجات کے لئے کافی ہونا، اخراجات ادا کرنا۔مصروف من الخدمۃ: ملازمت سے برخاست کیا ہوا، سبکدوش کیا ہوا۔المُنصَرَف: خرچ کی ہوئی رقم، اخراجات۔مُنصَرَف: روانگی، رخصت، باہر جانا۔

لامُنصَرَفَ عنه: ناگزیر، اٹل، ہوکر رہنے والا۔
مُنصَرفَهم: انکی روانگی پر، جب وہ روانہ ہوئے۔فی
منصرف النهار: دن کے اختتام پر۔

صرق: صَرْقَعَ أصَابعَهُ: انگلیاں چٹخانا۔صرقاعةُ
المقلاع: گوپھن کا سرا جو ہوا میں جھٹکنے پر آواز دیتا
ہے۔

صرم: ا۔صَرُمَ ۔صَرَامَةً الرجلُ: آدمی کا بہادر ہونا۔
تَصَرَّمَ الرجُلُ: بہادری کرنا۔الصَارِم(فا) جمع
صَوَارِم: بہادر(ح) شیر۔رجلٌ صارِمٌ: کسی کام کو
کرتے رہنے والا، عام لوگ کہتے ہیں۔حاکم صارم:
سخت گیر حاکم۔حُکمٌ صارمٌ: سخت حکم۔رجُلٌ
صرامةٌ: خودرائے آدمی، اپنی رائے کا پکا، اپنے کاموں
میں لگا رہنے والا شخص۔حزمٌ صریمٌ: اٹل حکم۔الصَرِیْمَةُ
جمع صرائم: عزیمت۔الصَیْرَمُ: پکی رائے والا۔
۲۔صَرَمَ ۔صَرْمًا و صُرْمًا الحبلَ: رسی کا ٹوٹنا۔الشیءَ: کو کاٹنا۔فلانًا: کو چھوڑ دینا، کی گفتگو بند کرنا۔
الخیّاطُ الثوبَ: درزی کا کپڑے کو سکیڑنا۔فلانٌ
عندنا شهرا: فلاں شخص نے ہمارے ہاں ایک ماہ
قیام کیا۔صَرُمَ ۔صُرَامَةً السیفُ: تلوار کا کاٹ
دار ہونا۔صُرِمَت اُذُنُهُ: کان کا جڑ سے کٹنا۔صَرَّمَ
هُ: صَرَمَه کا مبالغہ۔صَارَمَ مُصَارَمَةً هُ: سے علیحدہ
ہونا۔اَصْرَمَ النخلُ: کھجور کے چننے کا وقت قریب
آنا۔الرجُلُ: محتاج ہونا۔تَصَرَّمَ و اِنْصَرَمَ: کٹنا،
ٹوٹنا۔ت السَنَةُ: سال کا ختم ہونا، گزر جانا۔تَصَارَمَ
القومُ: باہم قطع تعلق کرنا۔اصْطَرَمَ الشیءَ: کو کاٹنا۔
الصُرْمُ (مص): قطع تعلقی۔الصِرْمُ جمع صرام و
أصارم و أصاریم و صُرْمان: جماعت، مکانوں کا
بلاک، قسم۔الصِرمة: قسم، جمع صِرَم: اونٹوں کا
گلہ، بادل یا چاندی کا ٹکڑا۔الصَارم جمع صَوَارِم:
شمشیر بران۔الصُرَام: مصیبت، جنگ، لڑائی۔رجُلٌ
صُرَامٌ: کاٹنے کی طاقت رکھنے والا۔الأَصْرَم م
صَرْمَاء جمع صُرْم: جس کے کانوں کے کنارے کٹے
ہوئے ہوں۔المُصْرِم: مفلس، بہت بال بچے والا۔
الأَصْرَمَانِ: رات اور دن(ح): بھیڑیا، کوا کہتے ہیں:
ترکته بوحش الأصرمین: میں نے اسے اس بیابان
میں چھوڑا جہاں صرف بھیڑیے اور کوے پائے جاتے
ہیں۔الصَرْمَاء: اصرم کا مونث، بے آب بیابان(ح)
کم دودھ والی اونٹنی۔الصَرُوم: شمشیر برآن، اچھی
طرح کاٹنے والا۔الصَرِیم: کٹا ہوا، صبح، رات یا اس
کا حصہ۔دودھ پینے سے روکنے کے لئے بکری کے بچے
کے منہ میں لگائی ہوئی لکڑی، وہ زمین جس پر سے فصل
کاٹ لی گئی ہو، کٹائی کے بعد غلہ کا انبار، ریت کا قطعہ
کہتے ہیں۔افعی صریم: ریتلے علاقہ کا زہریلا
سانپ۔جَاءَ صریمَ سحر: وہ نامراد و ناامید لوٹا۔
صریما اللیل: رات کا اول اور آخر کا حصہ۔الصریمة
جمع صَرَائِم: رات کا ایک حصہ۔الصَیْرَم: مصیبت،
دن میں ایک بار کا کھانا۔
۳۔الصَرْمُ: کھال (چرم کا معرب ہے)۔الصِرْم جمع
اَصْرَام و أصارم و أصاریم و صُرمان: چمڑے کا
موزہ، عوام اسے صرمایہ کہتے ہیں۔الصَرَّام: کھال
فروش، چرم فروش۔الصَرْمَاء: ہانڈی۔المَصْرِم:
جلد سیلاب لانے والی تنگ جگہ۔

ⓒ صَرُمَ ۔صَرَامةً: تیز ہونا، سخت ہونا۔
صَرَمَ ۔صَرْمًا و صُرْمًا ه: کو کاٹنا، الگ کرنا، علیحدہ کرنا،
جدا کرنا۔هُ: کو چھوڑ دینا، سے الگ ہو جانا، سے علیحدہ
ہو جانا، سے علیحدگی اختیار کرنا۔صَرَّمَ ه: کو کاٹنا، الگ
کرنا، علیحدہ کرنا۔تَصَرَّمَ: کم ہونا، گھٹنا، سمٹنا، گزرنا۔
ماضی ہو جانا، گزری ہوئی بات ہو جانا، ختم ہو جانا (وقت
کا)۔اِنْصَرَمَ: گزرنا، ماضی ہو جانا، گزری ہوئی بات
ہو جانا، ختم ہو جانا (وقت کا)۔صُرْم: جدائی، علیحدگی۔
صِرْمَة جمع صِرَم: اونٹوں کا گلہ۔صَرَامَة: تیزی
شدت، سختی، سخت گیری، مخالفت، دشمنی، عناد۔
صَرِیمة: گھوڑے کی لگام۔صَارَمَة: کشیدگی،
رنجش، قطع تعلقی، نفرت، دشمنی، مخالفت، معاندت۔
صارِم: تیز، سخت، سخت گیر۔مُنصَرِم: گزرا ہوا
(وقت)۔صَرَمة جمع صُرَم: جوتا۔صُرمایة جمع
صُرمایات و صرامی: (شام میں) سرخ یا پیلے چمڑے
کی جوتی، جوتیاں۔

صرن: الصُرْنایة: (مو) بانسری کی قسم کا ایک باجہ، شہنائی
(فارسی)۔

صرا: صَرَا ۔صَرْوًا الیه: کی طرف دیکھنا۔

صری: ا۔صَرَی ۔صَرْیًا الشیءَ: کو ہٹانا، کو دور کرنا
کہتے ہیں صَرَی اللّٰهُ عنه الشرَّ: اللہ تعالیٰ اس
سے برائی کو دور رکھے۔صَرَی بولَه: کا پیشاب روک
دینا۔فلانًا: کو منع کرنا، بچانا، کی ہلاکت سے خلاصی
کرنا۔بینهم: کے درمیان فیصلہ کرنا۔
۲۔صَرِیَ ۔صَرْیًا الشیءُ: بلند ہونا، پست ہونا (ضد)
۔القومَ: لوگوں سے آگے نکلنا۔عنهم: سے پیچھے رہ
جانا (ضد)
۳۔صَرِیَ ۔یَصْرَی صَرًی الماءُ: پانی کا زیادہ دیر
رکے رہنا سے متغیر ہو جانا۔اللبنُ: دودھ کا مزہ بدلنا۔
فلانٌ فی ید فلان: کسی کا کسی کے ہاتھ میں یرغمال و
قید ہونا۔الدمعُ: آنسو کا آنکھ میں ڈبڈبانا۔واَصْرَی
تِ الناقةُ: اونٹنی کے تھنوں میں دودھ اتر آنا۔صَرَّی
تَصْرِیَةً الشاةَ: بکری کا دودھ زیادہ بنانے کے لئے
تھن میں روک دینا اور نہ دوہنا۔الصَرَی: چیز کا بقیہ۔
۔۔۔ والصِرَی: زیادہ ٹھہرا ہوا پانی، کہتے ہیں۔لبن
صَرًی: مزا بدلا ہوا دودھ۔الصَارِیَة: وہ کنواں جس
کا پانی زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے متغیر ہو گیا ہو۔
الصَرَاة والصُرَّي والمُصَرَّاة من الشاء او
النوق: وہ بکری یا اونٹنی جس کو کئی روز تک نہ دوہا گیا ہو
تاکہ دودھ تھنوں میں جمع ہو جائے۔
۴۔الصَارِی جمع صُرَّاء و صَوَارِیّ و صَرَارِیُّون:
ملاح۔جمع صَوَارٍ: بادبان کا ڈنڈا، مستول۔الصَارِیَة:
الصاری کا مونث۔

ⓒ صاری العَلَم: پرچم والا کھمبا۔

صصل: الصَاصَل: ایک سفید پھولوں والا پودا۔

صطب: المِصطب: لوہار کی نہائی۔المِصْطَبَة و المَصْطَبَّة:
چبوترہ۔

ⓒ مِصْطَبَة: گھر کے اندر کھلی جگہ بنا ہوا اونچی پیج جمع
مصاطب۔

صطح: المِصْطَح جمع مَصَاطِح: بے برگ و گیاہ صحرا،
کھلیان۔

صطر: صَطَرَ ۔صَطْرًا و صَیْطَر والمُصطار بمعنی
سطر و سیطر والمُسطار

صطع: المِصْطَع: فصیح و بلیغ۔

صطم: الأُصْطُمَّة: چیز کا بڑا حصہ، جمع ہونے کی جگہ، وسط
(الأُصْطُمَّة): (الأُسْطُمَّة کی طرح)

صع: ا۔صَعْصَعَ القومَ: لوگوں کو متفرق کرنا۔۔۔۔
الشیءَ: کو حرکت دینا، ہلانا۔تَصَعْصَعَ: متحرک ہونا،
ہلنا، متفرق ہونا کہتے ہیں تَصَعْصَعَ بهم الدهرُ:
زمانہ نے ان کو بکھیر دیا، تتر بتر کر دیا۔تَصَعْصَعَت
صفوفهم: انکی صفیں اپنی جگہ قائم نہیں رہیں۔
الصَعْصَع: متفرق۔
۲۔صَعْصَعَ من فلان: سے خوف زدہ ہونا۔تَصَعْصَعَ
الرجُلُ: بزدل ہونا، ذلیل و تابع ہونا۔
۳۔صَعْصَعَ رأسَهُ بالدهن: سر کو تیل سے چکنا کرنا۔
۴۔الصَعْصَع والصُعْصُع جمع صَعَاصِع: (ح) ایک
چتلا پرندہ۔

صعب: صَعُبَ ۔صُعُوبَةً علیه الامرُ: پر کام کا دشوار
ہونا۔صفت صَعْبٌ م صَعْبَة جمع صِعَاب۔صَعَّبَ
هُ: کو دشوار بنانا۔صَاعَبَ مُصَاعَبَةً هُ: پر سختی کرنا۔
أَصْعَبَ الامرُ: کام مشکل ہونا، دشوار ہونا۔

الشیءَ: کومشکل پانا۔ الجملَ: اونٹ پر سواری نہ لینے کی وجہ سے اس کا بے قابو ہو جانا۔ تَصَعَّبَ: مشکل ہونا، دشوار ہونا۔ ـــ الامرَ: کو دشوار و مشکل بنا دینا۔ تَصَاعَبَ: باہم سختی کرنا۔ اِسْتَصْعَبَ: دشوار ہو جانا۔ ـ الشیءَ: کو مشکل اور دشوار پانا۔ الصَّعْبُ: مشکل، دشوار، خوددار (ح) شیر۔ الصَّعُوبُ جمع صُعُبٌ: دشوار۔ الصُّعْبُوب: مشکل، دشوار۔ المُصْعَبُ جمع مَصَاعِبُ و مَصَاعِیبُ: سانڈ، سرکش گھوڑا کہتے ہیں۔ جِمالٌ مَصَاعب و مَصَاعیب: سرکش اونٹ (جمع) المَصَاعِبُ: سختیاں، مشقتیں۔

۲۔ صَعُبَ - صُعُوبَةً علی: کے لئے سخت ہونا، مشکل ہونا، پریشان کن ہونا، سخت برا ہونا، ناگوار ہونا۔ صَعَّبَ ہ ل: کو کے لئے سخت بنانا، مشکل بنانا، کو کے لئے مشکل اور دشوار چیز کے طور پر پیش کرنا۔ تَصَعَّبَ: مشکل ہو جانا۔ ہ: کو سخت اور مشکل بنانا۔ تَصَاعَبَ: مشکل ہونا، ناگوار ہونا۔ اِسْتَصْعَبَ ہ: کو مشکل پانا یا سمجھنا۔ صِعَاب: مشکلات۔ صعب الاحتمال: ناقابل برداشت، سخت، مار ڈالنے والا۔ صعب الارضاء: جس کو راضی کرنا مشکل ہو، نازک طبع، نازک مزاج۔ صعب المراس: سخت، جس پر آسانی سے قابو نہ پایا جا سکے، ضدی، سرکش، ہٹ دھرم، ہٹ کا پکا، منہ زور، نافرمان، خودسر۔ عُمْلة صَعْبَة: عسیر الحصول سکے، زرسخت۔ صُعُوبَة: مشکل۔ صعوبة المراس: سختی، ضد، سرکشی، ہٹ دھرمی، منہ زوری، نافرمانی، خودسری۔ مَصَاعِب: مشکلات، سختیاں۔

صعت: صَعْتَرَ النحلُ: شہد کی مکھی کا پہاڑی پودینہ کھانا۔ الرجلُ الشیءَ: کو زینت دینا، کی آرائش کرنا۔ الصَّعْتَر (ن) پہاڑی پودینہ۔ الصَّعْتَرِیّ: چالاک، شریف، بہادر۔

صعد ا۔ صَعِدَ - صُعُوداً و صَعَداً و صُعُداً فی السلّم: سیڑھی پر چڑھنا۔ ـ بہ: کو چڑھانا، ترقی دینا۔ - صُعُوداً المکانَ: پر نیچے دیکھتے ہوتے چڑھنا۔ صَعَّدَ فیہ النظرَ: کو اوپر نیچے غور سے دیکھنا۔ فی و علی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ ـ فی الوادی: وادی میں اترنا۔ اَصْعَدَ بمکۃ (کو) جانا۔ ـ ہ: کو چڑھانا۔ ت السفینةُ: کشتی کا بادبان تاننا اور ہوا کا کشتی کو اوپر کی طرف لے جانا۔ ـــ فی الارض: اونچی زمین کی طرف سفر کرنا۔ فی الوادی: وادی میں اترنا۔ تَصَعَّدَ و تَصَاعَدَ: چڑھنا۔ اِصْطَعَدَ: چڑھنا۔ الصاعد (فا) کہتے ہیں۔ بلغ کذا فصاعداً: وہ اس مقام تک پہنچا پھر اس سے بھی اوپر، اس کا نصب حالیت کی وجہ سے ہے۔ الصَّعَّاد: بہت چڑھنے والا۔ الصُّعُد: بلندی کہتے ہیں: ھبط من صُعُدٍ: وہ بلندی سے نیچے آیا، نیز کہتے ہیں: ھذا النباتُ ینمو صُعُداً: یہ پودا بلندی میں بڑھتا ہے۔ الصَّعْدَة جمع صِعَاد و صَعَدَات: صعد کا اسم مرة۔ سیدھا ہموار نیزہ۔ الصَّعُود جمع صُعُد و اَصْعِدَة و صَعَائِد: چڑھائی، بلندی کی طرف جانے والا راستہ۔ الصَّعِید جمع صُعُد و صَعُدات و صُعُدَان: زمین کا بلند حصہ۔ التَّصَعُّد (ك) تبخیر۔ المَصْعَد: موصل جس سے برقی رو ہلکے کئے ہوئے گیس کی ٹیوب میں یا برقی تجزیہ دان میں داخل ہوتی ہے۔ المِصْعَد جمع مَصَاعِد: برقی سیڑھی۔ المِصْعَاد: درخت خرما پر چڑھنے کی رسی جبلٌ مُصْعِدٌ: بلند پہاڑ۔

۲۔ اَصْعَدَ فی العَدْوِ: تیز دوڑنا۔ تَصَعَّدَہُ الامرُ: کام کا کسی پر دشوار ہونا۔ ـ النَّفَسُ: سانس مشکل سے نکلنا۔ تصَاعَدَہُ الامرُ: کام کا کسی پر دشوار ہونا۔ الصَّعَد: مشقت۔ عذابٌ صَعَدٌ: سخت، تکلیف، عذاب۔ الصَّعُود جمع صُعُد و اَصْعِدَة و صَعَائِد: دشوار گزار گھاٹی کہتے ہیں: لأُرْهِقَنَّكَ صَعُوداً: میں تمہیں مشقت میں مبتلا کردوں گا۔ الصعداء: مشقت۔ الصُّعَداء: غم یا تکان سے لمبا سانس۔ الصَّعُوداء: دشوار گزار گھاٹی۔

۳۔ الصَّعِید جمع صُعُد و صُعُدات و صُعُدان: مٹی، قبر، راستہ کہتے ہیں۔ صارت الحدیقةُ صعیداً: باغ ہموار زمین بن گیا، جس میں کوئی درخت نہ رہا۔ المُصَعَّد من الأَشْرِبَة: عمل تبخیر سے گزارا ہوا شربت۔

○ صَعِدَ - صَعُوداً: اٹھنا، اوپر جانا، چڑھنا، اوپر کی طرف ڈھلوان ہونا۔ ہ: پر چڑھنا، ـــ ہوائی جہاز کا پرواز کرنا۔ صَعِدَ بِہِ الی: کو پر چڑھانا، کی تک رہنمائی کرنا۔ صَعَّدَ: چڑھنا، بہاؤ کے الٹے رخ جانا، بالائی مصر کی طرف سفر کرنا۔ - ہ: کو اوپر بھیجنا۔ - ہ: کو اٹھانا یا چڑھانا۔ - ہ: آہ بھرنا، کو بخارات بنانا، کا جوہر اڑانا۔ تصعید کرنا۔ صَعَّدَ الزفراف: گہری آہیں بھرنا۔ اَصْعَدَہ: کو چڑھانا، کو آگے کرنا یا بڑھانا۔ اَصْعَدَ اِلی: بلند خطہ کی طرف جانا، پہاڑ کے رخ کے خلاف جانا، اوپر کی طرف سفر کرنا، سفر کرنا۔ تَصَعَّدَ: بخارات بننا، تبخیر ہونا۔ تَصَاعَدَ: اٹھنا، چڑھنا۔ صُعُد: بلندی، اونچی جگہ، ارتقاع۔ صَعْدَة جمع صَعَدات: چڑھائی، اونچا اٹھنا، ڈھلان۔ صُعُود: اٹھنا، چڑھنا، پرواز (ہوائی جہاز کی) چڑھائی، بلندی، تجارت کی اچانک گرم بازاری۔ ـــ الی: کی طرف پیش قدمی۔ صعود الرب اور عید الصعود: رفع مسیح کا دن (عیسائیوں کے نزدیک) صَعُود: کھڑی چٹان۔ صَعِید جمع صُعُد: پہاڑی علاقہ، اونچا علاقہ، سطح مرتفع۔ الصعید اور صعید مصر: بالائی مصر۔ فی صعید واحد: مشترکہ بنیاد پر، یکساں بنیاد پر، بلا امتیاز، بلا تمیز۔ علی صعید واحد: ہم مزاج، متفق۔ صعیدی جمع صَعَایِدَة: بالائی مصر کا۔ صُعَداء: (گہری) آہ۔ تَنَفَّسَ الصعداء: (گہری) آہ بھرنا، گہری سانس لینا۔ مَصْعَد جمع مَصَاعِد: چڑھنے کی جگہ۔ مِصْعَد: برقی سیڑھی۔ مِصْعَدَة: بڑی سیڑھی۔ صاعِد جمع صَوَاعِد: اوپر اٹھتا ہوا، چڑھتا ہوا، بلند ہوتے (بخارات) فصاعداً: اور اس سے آگے، اور مزید۔ من -- فصاعداً: سے آگے، اوپر کی طرف۔ من الان فصاعداً: آج کے بعد، اب سے آئندہ۔ متصاعد: بلند ہوتا، چڑھتا ہوا، بلند ہوتے ہوئے (بخارات)۔

صعر ا۔ صَعِرَ - صَعَراً وجہُہُ: منہ کا ٹیڑھا ہونا صفت اَصْعَر م صَعراء جمع صُعر۔ صَعَّرَ و صَاعَرَ و اَصْعَرَ خَدَّہ: تکبر سے رخساروں کو ٹیڑھا کرنا، کبھی خِلْقَةً ایسا ہوتا ہے۔ تَصَعَّرَ و تَصَاعَرَ: تکبر سے رخسار کو ٹیڑھا کرنا۔ الصَّعَّار: متکبر، مغرور۔

۲۔ صَعِرَ - صَعَراً راسُہُ: سر کا چھوٹا ہونا۔

۳۔ صَعْرَرَ الشیءَ: کو گھمانا۔ تَصَعْرَرَ: گھومنا۔ اِصْعَنْرَرَ و اِصْعَرَّرَ: پیچ و تاب کھانا۔ الصُّعْرُورَة: گبریلے کی گولی۔

۴۔ اَصْعَرَّتِ الابلُ: اونٹوں کا تیز چلنا۔ الصُّعْرُور جمع صَعَارِیر: درخت کا جما ہوا رس، جیسے گوند۔

○ صَعِرَ - صَعَراً: (تکبر سے چہرے کا) ترچھا یا ٹیڑھا ہونا۔ صَعَّرَ خدہ: اپنی وضع قطع کو متکبرانہ بنانا۔

صعف ا۔ صُعِفَ صَعْفاً: کانپنا۔ اَصْعَفَ الزرعُ: غلے سے چھلکا اترنے کے قابل ہونا۔ صفت۔ صَعِیف۔ الصُّعْفَة: سردی یا خوف سے پیدا شدہ کپکی۔

۲۔ الصَّعْفَقُ و الصُّعْفُوق و الصَّعْفَقِیّ جمع صعافیق و صَعَافِقَة (ت) نادار خریدار بے سرمایہ گاہک، اور جب کوئی شخص کچھ خریدے تو اس کے ساتھ شریک ہو جائے، کمزور، بزدل، نہتا۔ الصَّعْفُوق جمع صَعَالِیق و صَعَافِقَة: کمینہ۔

صعق ا۔ صَعَقَ - صَاعِقَةً ت السماءُ القومَ: آسمان کا لوگوں پر بجلی گرانا۔ صَعَقَتْهُمُ الصاعِقَةُ: پر بجلی گرنا۔ صَعِقَ - صَعْقاً الرعدُ: بادل کا زور سے گرجنا۔ ـــ صُعَاقاً الثورُ: بیل کا زور سے ڈکارنا۔

۔اَصْعَقَ تہُ السماء: آسمان کا کسی پر بجلی گرانا۔الصَعَق: (مص) کڑک۔الصُعاق: بادل کی گرج وکڑک۔ الصاعِقَۃ: (مص) جمع صَوَاعِق: زمین پر گرنے والی بجلی، عذاب کی چیخ وپکار۔

۲۔ صَعِقَ - صَعِقَات الرکیّۃُ: کنویں کا گر جانا۔ وصُعِقَ صَعْقًا و صَعَقًا و صَعْقَۃً و تَصْعَاقا: کسی تیز آواز وغیرہ کو سن کر بیہوش ہو جانا، ہوش وحواس میں نہ رہنا۔ (صفت: صَعِق) مرجانا۔اَصْعَقَ ہٗ: کو قتل کرنا۔ الصَعَق: موت۔الصَاعِقۃ جمع صَواعِق: موت، ہر مہلک تکلیف۔المصْعُوق: بیہوش، اچانک مرجانے والا۔

۳۔ الصُعْقُرُ: مچھلی کے انڈے۔

⊙ صَعَقَ - صَاعِقَۃ ہٗ: کو بجلی کا مارڈالنا، کو بیہوش کرنا، کے حواس باختہ کرنا، پر غشی طاری کرنا۔ صَعِقَ - وَ صُعِقَ صَعَقَۃً: پر بجلی گرنا، کا ہوش زائل ہونا۔صعق فی مکانہ: راہ چلتے مرجانا، رک جانا، جیسے بجلی گری ہو۔ اَصْعَقَ ہٗ: کو بجلی کا مار ڈالنا، تباہ کر دینا، کو بیہوش کرنا، کے حواس باختہ کرنا، پر غشی طاری کرنا۔انصعق: پر بجلی گرنا۔صَعَق: (بادل کی) گرج، گھن گرج (بجلی کی) کڑک، گرج۔صَاعِقَۃ: بجلی، کوندے کی لپک۔ مصعوق: جس پر بجلی گری ہو، حواس باختہ، سٹ پٹایا ہوا، گم سم، کچلا ہوا، ہلاک شدہ، توڑا پھوڑا ہوا، نیست و نابود کیا ہوا۔

صعل: ۱۔ صَعِلَ - صَعَلاً و اِصْعَالً: چھوٹے سر اور، پتلی گردن والا ہونا، صفت۔اَصْعَل م صَعْلاءَ جمع صُعْل۔ الصَعْل: چھوٹے سر والا شتر مرغ، کھجور کا درخت یا آدمی، لمبا، وہ گدھا جس کے بال جھڑ گئے ہوں۔

۲۔ صَعْلَکَ صَعْلَکَۃً ہٗ: کو محتاج بنانا۔تَصَعْلَکَ: محتاج ہونا۔الصُعْلُوک جمع صعالیک و صَعَالِک: غریب، بے مایہ۔صَعَالِیکُ العربِ: عرب کے چور اور غریب لوگ۔

۳۔ صَعْلَکَ صَعْلَکَۃً ہٗ: کو دبلا کرنا۔الصُعْلُوک جمع صَعَالِیک و صَعَالِک: کمزور ناتواں۔

⊙ صَعْلَکَۃ: کوچہ گردی، آوارہ گردی۔صُعْلُوک جمع صَعَالِیک: قلاش، مفلس، بے مایہ، کنگال محتاج، غریب بیچارہ، بھکاری، آوارہ گرد، بیکار مزدوری ڈھونڈنے والا، بے خانماں، مارا مار پھرنے والا، بے گھر، بے در، کوچہ گرد۔

صعن: اَصْعَنَ الرجُلُ: چھوٹے سر اور ناقص عقل والا ہونا۔اِصْعَنَّ الشیءُ: باریک اور نازک ہونا۔

صعا: صَعَا یَصْعا و یَصْعُو صَعْواً: پتلا اور چھوٹا ہونا۔ الصَعْو: (مص) جمع صَعَوَات واحد صَعْوَۃٌ: چھوٹی چڑیاں۔جمع صِعَاء و اَصْعَاء: (ح) ممولا، بیا۔ ناقۃ صَعْوَۃ: چھوٹے سر والی اونٹنی۔

صغب: الصُغَب: جوں کے انڈے، لیکھیں۔

صغر: ۱۔ صَغِرَ - صَغَراً و صَغَارَۃً و صِغَراً و صُغْرَانًا: چھوٹا ہونا۔صَغِراً القومَ: قوم میں سب سے چھوٹا ہونا۔فُلانًا: سے چھوٹا ہونا۔صَغَرَ - صَغْراً القومَ: قوم میں سب سے چھوٹا ہونا۔فُلانًا: سے چھوٹا ہونا۔صَغُرَ - صَغْراً القومَ: قوم میں سب سے چھوٹا ہونا۔فلانا: سے چھوٹا ہونا۔ آپ کہتے ہیں۔ما صَغَرَنِی الابسنۃٍ: وہ مجھ سے صرف ایک سال چھوٹا ہے۔صَغُرَ - صُغْراً و صَغَارَۃً و صِغَراً و صُغْرانًا: چھوٹا ہونا۔صَغَّرہٗ: کو چھوٹا بنانا۔اَصْغَرَ القومُ: قوم کا چھوٹے قد والے جننا۔ہٗ: کو چھوٹا بنانا۔ ت الارضُ: زمین کا چھوٹے پودوں والی ہونا۔ اسْتَصْغَرَہٗ: کو چھوٹا سمجھنا یا چھوٹا پانا۔فلانٌ: چھوٹا طلب کرنا۔الصِغْرَۃ: سب سے چھوٹی اولاد یا قوم میں سب سے چھوٹا کہتے ہیں۔ھو صِغْرۃُ ابویہ او صغرۃ اولاد ابویہ: وہ اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اولاد ہے۔صِغار القوم: قوم میں چھوٹے لوگ کہتے ہیں۔أنا من الصِغْرۃ: میں چھوٹے لوگوں میں سے ہوں۔الصُغَار و الصُغْران: چھوٹا۔الصَغَارۃ: (مص) چھوٹا پن کہا جاتا ہے کہ صَغَارَۃ: قدر و منزلت میں چھوٹا پن اور صِغَر: جسامت میں چھوٹا ہونا ہے۔ الصَغِیر جمع صِغَار و صُغَراء: چھوٹا۔الأَصْغَر: اِسم تفضیل جمع اَصَاغِر و اَصَاغِرۃ و اَصْغَرُوْن م صُغْرىٰ جمع صُغَر: سب سے چھوٹا، یا کسی سے چھوٹا۔ الأَصْغَرانِ: دل وزبان، اسی سے مثل ہے۔المرءُ بأَصْغَرَیہ: آدمی کی قدر ومنزلت دو چھوٹی چیزوں دل اور زبان سے ہے۔

۲۔ صَغُرَ - صِغَراً و صُغْراً و صَغَاراً و صَغَارَۃً و صُغْرانًا: ذلیل وخوار ہونا۔صَغَّرَہٗ: کو ذلیل کرنا کہتے ہیں۔صَغَّرہٗ فی اعین الناس: اس نے اسکی لوگوں کی نظر میں تحقیر کی۔اَصْغَرَہٗ: کو ذلیل کرنا۔تَصَاغَرَ الرجُلُ: حقیر ہونا، بے قدر ہونا کہتے ہیں۔تصَاغَرَت الیہ نفسُہٗ: اس نے اس کے سامنے آپ کو لائق مذمت ثابت کیا۔الصَغَار والصُغْر: ذلت، حقارت، کمزوری، کمی، ظلم بے انصافی۔الصَاغِر جمع صَغَرۃ و صَاغِرُون (فا): ذلیل، حقیر، ذلت اور ظلم پر راضی۔

۳۔ صَغُرَ - صِغَراً و صُغْراً و صَغَاراً و صَغَارَۃً و صُغْرانات الشمسُ: سورج کا غروب کی طرف مائل ہونا۔

⊙ صَغُرَ - صِغَراً و صَغَارَۃ و صَغِرَ - صَغَراً: چھوٹا ہونا، بہت کم یا ناکافی ہونا، کم ہونا، گھٹنا۔گھٹ جانا، کم ہوجانا، سمٹنا، نوجوان ہونا، کمسن ہونا، منکسر المزاج ہونا، عاجز ہونا، فرمانبردار ہونا، اطاعت شعار ہونا، اطاعت پذیر ہونا، انقیاد پذیر ہونا، منقاد ہونا، کمینہ، ذلیل، یا فرومایہ ہونا، غریب ہونا مسکین ہونا۔صَغُرَ - صَغَراً ہ ب: سے عمر میں بقدر...... چھوٹا ہونا۔صَغَّرَ ہ: کو چھوٹا بنانا، کم کرنا، تھوڑا کرنا۔-- ہ / ﮦ: کو گھٹا کر بتانا، پر ہنسنا، کی ہنسی اڑانا، کا مذاق اڑانا، کو بے قدر کرنا، کو حقیر یا ذلیل کرنا۔تَصَاغَرَ: اپنے آپ کو قابل مذمت ثابت کرنا، کمینہ ذلیل یا فرومایہ ہونا یا عاجزی کرنا، لجاجت کرنا، اپنی بے عزتی کرنا، اپنی خودداری کا جنازہ نکالنا۔استَصْغَرَ ہ / ﮦ: کو چھوٹا، معمولی یا بے حقیقت سمجھنا، کو حقیر جاننا، کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہ کرسکنا، کے متعلق بری رائے رکھنا۔استصغر نفسہ: اپنے آپ کو کم مرتبہ سمجھنا۔صِغَر: چھوٹا ہونا، چھوٹا پن کمی، ناکافی ہونا، معمولی ہونا، کی قلت، کم سنی، کم عمری۔ صِغَرِ السن: کم سنی، نوعمری۔صغیر السن: کم سن۔ صغیر النفس: کمینہ خصلت، گھٹیا، پست، رذیل، ذلیل، فرومایہ، خوش آمدی، کاسہ لیس، خوشامدی ٹٹو، چاپلوس۔صِغَارُ المؤظفین: چھوٹے اہلکار کُل صغیرۃٍ و کبیرۃٍ: ہر تفصیل۔صغیرۃ جمع صَغَائر: معمولی قابل معافی گناہ، چھوٹی غلطی۔صَغَائِر: معمولی یا فضول باتیں، غیر اہم امور۔اَصْغَر الشرّین: دو برائیوں میں سے کم درجہ کی برائی۔اسیا الصُغْرىٰ: ایشیائے کوچک۔الدول الصغری: چھوٹے ممالک۔ سوریا الصغری: فلسطین۔النِہایۃُ الصغری: کم سے کم۔فی صورۃٍ مُصغرۃ: چھوٹے پیمانے پر۔فلمٌ مُصَغَّر: مائکروفلم۔اِصغار: حقارت، تحقیر توہین، تذلیل۔بے التفاتی، بے پروائی۔تصاغر: غلامی، کمینگی، خوشامد، کاسہ لیسی، عاجزی، لجاجت، کسی کے سامنے جھکنا۔صاغِر: کمینہ، منکسر المزاج، عاجز، حقیر، ذلیل، قابل مذمت، لائق مذمت، شرمندہ، نیچا شرمسار، مسکین، عاجزانہ طبیعت والا، بددل، افسردہ، غمگین، فرمانبردار، غلامانہ۔ـ لِ: کا تابع، محکوم۔

صغا: ۱۔ صَغَا - صُغُواً الیہ: کی طرف کان لگانا۔ صَغِیَ یَصْغَی صَغًی و صُغِیًّا الیہ: کی طرف جھک کر سننا، سننے کے لئے کی طرف جھکنا۔اَصْغَی اصغاءً الی حدیثہ: کی بات کو غور سے سننا۔الیہ: سننے کے

لئے کی طرف جھکنا۔ صاغیة الرجل آدمی کے ماتحت نوکر چاکر، آدمی کی قوم، آپ کہتے ہیں: اکرموا فلانا فی صاغیتہ: یعنی اسکی قوم میں اسکی عزت کرو۔

۲۔ صَغَا ۔ صُغُوًّا ت النجوم او الشمسُ: غروب کے لئے جھکنا، غروب ہونے لگنا، غروب ہونے والے سورج کو صغوا اور غروب ہونے والے ستاروں کو صَوَاغ کہتے ہیں۔ صَغِیَ یَصْغَی صَغًی و صُغِیًّا ت النجوم او الشمسُ: ستاروں یا سورج کا غروب ہونے لگنا۔ اَصْغَی اصغاءً الاناءَ: برتن جھکانا۔ الصِغو جمع اَصْغَاء: ڈول کے دوہرے کنارے۔

۳۔ اَصْغَی اصغاءً الشیءَ: کو کم کرنا، گھٹانا آپ کہتے ہیں: أصغی حقَّهُ: اس نے اس کا حق گھٹا دیا۔

۴۔ الصِغو جمع اَصْغَاء: کنوئیں کا کنارہ۔ صِغو الکفِّ او المغرفةِ: ہتھیلی یا چمچہ کا گڑھا۔

○ (صغو و صغی) صَغَا ۔ صُغوا و صُغُوًّا الی: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔ صَغِیَ ۔ صَغًا و صُغِیًّا الی: کی طرف (پر) جھکنا، مائل ہونا۔ ل: کو بغور سننا، پرکان لگانا۔ اَصْغَی لِ / الی: کو بغور سننا، پرکان لگانا، کی طرف توجہ کرنا، پرکان دھرنا۔ صَغْو و صَغًا: جھکاؤ، میلان، رجحان، لگاؤ، تعلق، خیر اندیشی، خیر خواہی، خیر سگالی۔ اصغاء: توجہ، متوجہ ہونا۔ صاغٍ: مائل، راضی، رضامند، آمادہ، تیار، متوجہ، غور سے سننے والا، سننے والا۔ مُصغٍ: متوجہ، غور سے سننے والا، سننے والا۔

صف: ۱۔ صَفَّ ۔ صَفًّا الشیءَ: کی صف بنانا، کو صف کی شکل میں منظم کرنا آپ کہتے ہیں: صف۔ الصبیانُ الکعابَ: بچوں نے اڑیوں کو ایک صف میں کیا۔ القومَ: لوگوں کو جنگ وغیرہ میں صفوں میں کھڑا کرنا۔ — القومُ: لوگوں کا صف بندی کرنا۔ تصُفُّ النساءُ خلفَ الرجالِ و لاتَصُفُّ معَهُمْ: عورتیں مردوں کے پیچھے صفیں قائم کرتی ہیں، مردوں کے ساتھ نہیں۔ — ت الابلُ قوائمَها: اونٹوں کا اپنے پاؤں کو ایک قطار میں رکھنا۔ — اللحمَ: گوشت کو لمبائی میں چیرنا۔ — الطائرُ جناحَیْهِ: پرندے کا اپنے بازوؤں کو پھیلانا اور حرکت نہ دینا۔ صَفَّفَ الشیءَ: چیز کی صف بندی کرنا۔ القومَ: قوم کو جنگ وغیرہ میں صف بندی سے کھڑا کرنا۔ ت الابلُ قوائمَها: اونٹوں کا اپنے پاؤں کو ایک قطار میں رکھنا۔ اللحمَ: گوشت کو لمبائی میں چیرنا۔ الطائرُ جناحَیْهِ: پرندہ کا اپنے بازوؤں کو پھیلانا اور حرکت نہ دینا۔ صافَّ مُصافّةً القومَ فی القتال: لوگوں کا جنگ میں صفوں میں کھڑا ہونا۔

تصافَّ القومُ: صف وار جمع ہونا۔ اِصْطَفَّ القومُ: لوگوں کا صفوں میں کھڑا ہونا۔ الصَفّ جمع صُفُوف: ہر شئے کی سیدھی قطار، کلاس (Class) صف بستہ قوم۔ الصافّة من الابل جمع صافّات و صَوافّ: ایک قطار میں ٹانگیں رکھے ہوئے اونٹ۔ الصافّات: ملائکہ، فرشتے۔ الطیر الصَوافّ: وہ پرندے جو اپنے بازوؤں کو قطار میں رکھیں اور حرکت نہ دیں۔ ناقة صَفُوف: بہت دودھ دینے والی اونٹنی، جو دودھ کی کثرت کی وجہ سے برتنوں کی صف لگادے یا اپنی اگلی ٹانگوں کو دودھ دوہنے کے وقت ایک صف میں کرلے۔ الصفیف: دھوپ میں سکھانے یا آگ پر بھوننے کے لئے قطار میں رکھی ہوئی چیز۔ المَصَفّ جمع مَصافّ: صف بندی کی جگہ، میدان کارزار، عموماً کھڑے ہونے کی جگہ۔ مَصَفُّ الکلام ۔ سیاق الکلام (عام زبان میں)) جو اس عبارت کے بعد ہو) مقالہ کا نتیجہ۔

۲۔ صَفَّ ۔ صَفًّا و صَفَّفَ السرجَ: کاٹھی یا زین کے لئے گدی بنانا۔ صافَّ مُصافّةً فلانٌ فلانا: کے چبوترے کے مقابل اپنا چبوترہ ہونا۔ اَصَفَّ السرجَ: زین کے لئے گدی بنانا۔ الصُفَّةُ جمع صُفَف و صُفّات و صِفات: گرمی کے لئے گھاس پھوس کی چھت کا مکان۔ صُفَّةُ السرج او الرحل: زین یا کجاوہ کی گدی۔ — المسجد: مسجد کے قریب سایہ دار چبوترہ۔

۳۔ الصُفَّة جمع صُفَف و صُفّات و صِفاف: ہتھیلی پر رکھے جانے والے دانے، بنگی بخ۔ صُفَّةٌ من الدهر: زمانہ کا ایک عرصہ، آپ کہتے ہیں: عِشْنا صُفَّةً من الدهر: ہم زمانے کا ایک عرصہ رہے۔ الصَفَف: وہ لباس جو زرہ کے نیچے پہنا جاتا ہے۔

۴۔ صَفْصَفَ الرجُلُ: بیابان میں تنہا چلنا۔ الصفصف: ہموار زمین، بیابان۔ قاعٌ صَفْصَفٌ: ہموار زمین۔ الصَفْصَفة: بیابان۔ صَفْصَفَ العُصْفورُ: چڑیا کا چہچہانا۔ الصُفْصُف: (ح) چڑیا۔

۶۔ صَفْصَفَ الامتعةَ: سامان کو ترتیب سے رکھنا۔

۷۔ الصَفْصاف (ن): بید مجنوں، بید۔

○ صَفَّ ۔ صَفًّا ہ: کو صف یا قطار میں رکھنا، کی قطار بندی کرنا، کو سیدھ میں لانا، کی صف بندی کرنا، کو ترتیب دینا، (ٹائپ کے حروف) کو جوڑنا یا جمانا، کی درجہ بندی کرنا۔ — ہ مع: کی کے درمیان صف بندی کرنا۔ — ہ: کو لمبے ٹکڑوں یا چوڑی پٹیوں میں کاٹنا۔ صَفَّفَ ہ: کو قطار یا صف میں رکھنا، کو سیدھ میں لانا، کو ترتیب دینا۔ — ہ بالوں میں کنگھی کرنا۔ تَصافَّ: صف بستہ ہونا، قطار یا صف میں کھڑا ہونا، یا جگہ لینا، ایک سیدھ میں ہونا۔ اِصْطَفَّ بمعنی تَصَافَّ۔ اِصْطَفَّ فارمیشن میں آنا یا کھڑا ہونا (فوج کے ایک حصہ کا) اصطف الی جانب الطریق: سڑک پر صف بستہ ہونا۔ صَفّ جمع صُفُوف قطار، صف، کلاس، قسم، گروپ۔ صف الدم: خون کا گروپ (blood group) آلةُ صفِّ الحروف: ٹائپ سیٹ کرنے والی مشین۔ ضابط الصف: (نیز صف ضابط جمع) صف ضباط: نان کمشنڈ آفیسر۔ اِنْتَظَمَ صفوفًا: صف بندی کرنا۔ صُفّة: نگر۔ صَفّاف و صفّاف الحروف: حروف جوڑنے یا جمانے والا۔ مَصَفّ جمع مَصافّ: (فوج کی) پوزیشن، صف، قطار، محاذ جنگ۔ رفعه الی مصافِّ: کو کسی صف یا سطح پر لانا۔

صفت: صَفَتَ ۔ صَفْتًا حقَّهُ: اپنا حق چھوڑ دینا (عام زبان میں) تَصَفَّتَ الرجُلُ طاقت حاصل کرنا، قوی اور مضبوط ہونا۔ الصِفِتّ و الصِفِتّان و الصِفِتّان: بڑا جسیم، مضبوط تخت اندام۔

صفح: ۱۔ صَفَحَ ۔ صَفْحًا الشیءَ: کو چوڑا کرنا۔ — ہ بالسیف: کو تلوار چوڑی طرف سے مارنا، دھار کی طرف سے نہیں۔ الناسَ: لوگوں میں مقابلہ کرکے ان کے حالات کو دیکھنا۔ تَصَفَّحَ المکانَ: کسی جگہ میں سلوں کا فرش لگانا۔ الشیء: کو چوڑا کرنا اور لمبا کرنا۔ بیدیه: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔ صافَحَ صِفاحًا و مُصافحةً ہ: سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا۔ تَصافَحَ القومُ: ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، کہتے ہیں۔ تَصافحت الاجفان: پلک جھپکنا۔ الصَفْح (مص) جمع صِفاح: جانب۔ من الانسان: انسان کا پہلو۔ السیفِ: تلوار کا چوڑا پہلو۔ من الوجه: رخسار۔ الصُفْح: تلوار اور چہرے کی چوڑائی۔ صُفْحا الکَفَّیْن: ہتھیلیوں کے سامنے کے حصے۔ الصَفْحة من الشیء جمع صَفَحات: پہلو، سامنے کا حصہ۔ من الکتاب: صفحہ۔ صَفْحةُ الرجُلِ: سینہ کی چوڑائی کہتے ہیں۔ ابدی له صَفْحتَهُ: اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ الصَفْحان و الصَفْحَتان: دونوں رخسار۔ الصِفاح و الصَفَح: رخسار یا پیشانی کی بہت زیادہ چوڑائی کہتے ہیں۔ لَقِيَهُ صِفاحًا: وہ اس سے اچانک ملا۔ الصُفّاح جمع صُفّحات و صَفافیح: چوڑے پتلے پتھر، بڑے کوہان والے اونٹ۔ الصَفیح: ہر چوڑی چیز کا ظاہر، آسمان۔ الصَفیحة جمع صفیح

و صَفائِح چوڑی تلوار، چوڑا پتھر، ہر چوڑی اور لمبی چیز کا ظاہر (ط) گندھے ہوئے آٹے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن پر گوشت اور مسالے رکھ کر پکائے جاتے ہیں۔ ـــــ او النصل پتے کا چوڑا پھیلا ہوا حصہ۔ صفیحۃُ الوجہ: چہرے کی کھال۔ الصَّفائِح: دروازے کے تختے۔ سر کی ہڈیاں۔ المُصفَح چوڑا۔ من الوجوہ: ملائم خوبصورت چہرہ۔ ـــــ من الرؤوس کنپٹیوں کے پاس سے تنگ پیشانی اور گدی کے درمیان لمبا سر۔ من الناس وہ دورخا شخص جو کافروں سے بھی میل رکھے اور مومنوں سے بھی۔ من الانوف درمیانی بلندی والی ناک۔ ستواں ناک۔ من القلوب وہ دل جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہوں۔ المُصَفَّح چوڑا، جس پر چوڑی سلیں لگی ہوں۔ انف مُصَفَّح ستواں ناک۔ المُصَفَّحَۃ و المُصفَحَۃ جمع مُصفَحات و مُصَفَّحات تلوار المُصَفَّحات واحد مُصَفَّحَۃ (اع): بکتر بند گاڑیاں

۲۔ صَفَحَ ـ صَفحًا عنہ: سے منہ پھیرنا، روگردانی کرنا، اعراض کرنا، کو ترک کرنا، کے گناہ سے درگزر کرنا، کو معاف کرنا۔ السائلَ عن حاجتہ سائل کی حاجت پوری نہ کرنا، آپ کہتے ہیں: أتیتہ فی حاجۃ فصفحنی: میں ایک کام کے سلسلے میں اس کے پاس آیا مگر اس نے میری ضرورت پوری نہیں کی۔ ـــــ صُفوحات الناقۃُ وغیرُھا اونٹنی وغیرہ کا دودھ خشک ہونا۔ صفت صافِح۔ صَافَحَ المریضُ عند العامۃ: مریض سے خطرہ ٹل گیا۔ أَصفَحَ السائلَ: سائل کو ناکام واپس پھیرنا۔ الشیءَ: کو الٹنا، پلٹنا۔ استَصفَحَ ہُ الذنبَ: سے گناہ کی معافی چاہنا۔ الصفح (مص) کہتے ہیں۔ ضَرَبَ عنہ صَفحًا: اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ الصَّفّاح: گناہ معاف کرنے والا، کریم۔ المُصفَح: الٹا ہوا، جھکا ہوا۔

۳۔ صَفَحَ ـ صَفحًا الناسَ: لوگوں میں مقابلہ کر کے ان کے حالات کو دیکھنا۔ ـــــ ورقَ المُصحَفِ: مصحف کے ایک ایک ورق کو پیش کرنا۔ فی الامر: کسی امر میں غور کرنا۔ تَصَفَّحَ الشیءَ: کو غور سے دیکھنا اور سوچنا۔ القومَ: لوگوں کے حالات پر غور کرنا، لوگوں کے معاملات کا پتہ لگانے کے لئے ان کے چہروں کو غور سے دیکھنا۔

○ صَفَّحَ ـ صَفحًا ہ: کو چوڑا کرنا، فراخ کرنا، وسیع کرنا، چپٹا کرنا، ہموار کرنا، کو گوشت یا پیٹ کر ورق بنانا، پرتہ چڑھانا، کو ملمع کرنا۔ صَفّح: بمعنی بالا، کو بیلنا، پر پتر چڑھانا، کو بکتر بند کرنا۔ ہ ب: کو سے لیس کرنا، کو سے آراستہ کرنا، کو سے ڈھکنا۔ صَافَحَ ہ: سے ہاتھ ملانا، سے مصافحہ کرنا، کا خیر مقدم کرنا۔ ـــــ ہ: کو آرام سے چھونا، کا مسح کرنا، کو چھوتے ہوئے نکل جانا، پر پھسلنا، (ہوا، سانس کا) کو چھوڑ جانا۔ صافَحَ سَمعَہ: کے کان تک پہنچنا۔ تَصَفَّحَ ہ: (کتاب وغیرہ کا) ورق پلٹنا، کا جائزہ لینا کی جانچ پڑتال کرنا، کو بغور دیکھنا، کا مطالعہ کرنا، کو بغور پڑھنا۔ تَصَافَحَ ہاتھ ملانا۔ استصفح ہُ ہ: سے کے لئے معافی چاہنا، سے کے لئے معذرت کرنا، عذر خواہی کرنا۔ صفح: معافی، جمع صِفاح: جانب، کنارہ، سطح۔ ضَرَبَ (أَضرَبَ) عنہ صَفحًا: سے کترانا، اعراض کرنا، منہ پھیرنا، کو چھوڑنا، کو نظر انداز کرنا، کو مسترد کرنا، کی سبکی کرنا، کی پروا نہ کرنا، پر التفات نہ کرنا، کا لحاظ نہ کرنا، سے باز رہنا۔ صَفحَۃ جمع صَفَحات: باہر، بیرونی سطح، آخری حد، ظاہری صورت، ظاہری حالت، سپاٹ سطح، سطح، صفحہ، ورق، کاغذ کا تختہ، چادر، تختہ، دَور۔ صَفیح چوڑی طرف یا سطح، لوہے کی چادر، ٹین کی پلیٹ، ٹین کی پلیٹیں یا چادریں۔ صَفیحۃ جمع صَفائح: (دھات کی) پلیٹ یا چادر، لکڑی کا تختہ، سل، پتھر کی سل، ٹین کی پلیٹ یا چادر، بالٹی۔ صفاح المصراع: دروازے کا تختہ۔ صفائح المقوّل: فونوگراف ریکارڈر، گراموفون ڈسکس (discs)۔ صَفوح: معاف کرنے والا، معاف کرنے کے لئے تیار و آمادہ۔ صُفّاح جمع صُفّاحات و صفافیح: پلیٹ، چادر، پتہ، ورق، پتھر کی سل، پتھر کی سل۔ تصفیح: پتر چڑھانا، ملمع کاری۔ مُصَفَّح: چادروں یا باریک پرتوں یا تہوں میں بنایا ہوا، ملمع کیا ہوا، پتر چڑھایا ہوا، بکتر بند، لوہے سے منڈھا ہوا، دھات سے منڈھا ہوا۔ خشبٌ مُصَفَّح: پلائی وڈ۔ سیارۃٌ مُصَفَّحۃ: بکتر بند کار۔ مُصَفَّحۃ جمع مُصَفَّحات: بکتر بند کار، دیکھ بھال کی بکتر بند کار۔

صفد: صَفَدَ ـ صَفدًا و صُفودًا و صَفَّدَہُ: کو باندھنا، قید کرنا، ہتھکڑی لگانا۔ أَصفَدَہُ: کو قید کرنا۔ ہُ مالاً: کو مال دینا۔ الصَّفَد جمع أَصفاد: عطا، بخشش، قید کہتے ہیں: الصَّفَدُ صَفَدٌ: بخشش ایک قید (یا ہتھکڑی) ہے۔ الصِّفاد: ہتھکڑی، بندھن، بندش، تصفید کا اسم ہے جس کا معنی باندھنا ہے۔

○ صَفَدَ ـ صَفدًا و صَفَد و أصفَدَہُ: کو باندھنا، کو بیڑیاں ڈالنا، کو ہتھکڑی لگانا۔ صَفَد جمع أصفاد: بندھن، پابندی، بیڑی۔ صِفاد: بمعنی بالا۔ صفاد الیدین: ہتھکڑی۔

صفر: ۱۔ صَفَرَ ـ صَفیرًا: ہونٹوں سے سیٹی بجانا، عوام اسے صُوفَر کہتے ہیں۔ ـــــ بالفرس عند ورودہ: گھوڑے کو پانی پینے کے لئے بلانا۔ صَفَّر للدابَّۃ: جانور کے لئے ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔ ـــــ بالدابَّۃ: جانور کو پانی پینے کے لئے بلانا۔ ـــــ الصُّفار: سیٹی۔ الصَّفّارۃ: سیٹی عام لوگ اسے صُوفَیرہ کہتے ہیں۔ صَفّارۃُ الخطر: (نیز صَفّارۃُ الانذار) خطرہ کا الارم۔ الصَّفیر: (مص) ہر لمبی مگر حروف سے خالی آواز۔ حروفُ الصفیر: ز، س، ص۔ الصافِر: ہر ایک بولنے والا پرندہ (ح): رات بھر آواز کرنے والا، ایک قسم کا پرندہ تاکہ سو جائے تو پکڑا نہ جائے، اس سے مثل ہے: ھُوَ اَجبَنُ مِن صافِرٍ: وہ رات کو نہ سونے والے پرندے سے بھی زیادہ بزدل ہے۔

۲۔ صَفِرَ ـ صفرًا: کے پیٹ میں صُفار جمع ہونا۔ صفت مَصفور صَفَّر الشیءَ: کو زرد کرنا۔ ـــــ الثوبَ: کو زرد رنگ دینا۔ اصفَرَّ و اصفارَّ: زرد رنگ ہونا۔ الصُّفر: دینار، سونا، پیتل۔ الصُّفرۃ: سنہری یا زرد رنگ۔ الصَّفَر: پیلیا، یرقان کی بیماری۔ الصُّفار: پیٹ میں جمع ہونے والا پیلے رنگ کا پانی، زردی جو رنگ اور جلد پر آ جاتی ہے۔ الصِّفار (عند العامۃ): انڈے کی زردی۔ الصُّفارۃ: مرجھایا ہوا پودا۔ الصَّفّار: ٹھٹھیرا۔ الصُّفاریّۃ: (ح) ایک زرد پروں کا پرندہ۔ الاَصفَر م صَفراء جمع صُفر: زرد رنگ کا۔ الأَصفَران: زعفران اور سونا۔ الصُّفراء الاصفر کا مونث۔ سونا۔ الصُّفَیراء (ن): ایک قسم کا درخت۔ ـ البابانیۃ (ن): ایک قسم کا درخت۔

۳۔ صَفِرَ ـ صَفَرًا و صُفورًا و صُفورۃً الاناءُ: برتن کا خالی ہونا کہتے ہیں: صَفِر وطابُہ او اناءُہ: یعنی وہ ہلاک ہو گیا۔ دخلنا الدارَ فوجدناھا تصفر: ہم گھر میں داخل ہوئے تو اسے خالی پایا۔ صَفَّر البیتَ: گھر کو خالی کرنا۔ أصفَرَ: محتاج و کنگال ہونا۔ الاناءَ: برتن کا خالی ہونا۔ البیتَ: مکان خالی کرنا۔ الصِّفر والصُّفر: خالی کہتے ہیں: بیتٌ صِفرٌ من المتاع: مکان میں کوئی سامان نہیں۔ ھو صِفرُ الید: وہ خالی ہاتھ ہے۔ الصِّفر: خالی (ع ح)۔ صِفر: (نقطہ جو اس بات کی علامت ہے کہ عدد خالی ہے) عوام اس کا تلفظ سین سے کرتے ہیں یعنی سفر کہتے ہیں۔ الصَّفَر: بھوک کہتے ہیں۔ عَضَّ علی شُرشوفہ الصَّفَر: یعنی وہ بھوکا ہو گیا۔ صَفَر جمع أصفار: قمری سال کا دوسرا مہینہ۔ غیر منصرف ہے کہتے ہیں: لا یلتاط ھذا بصَفَری: اسکو میری عقل قبول نہیں کرتی۔ الصَّفَران:

عربی سن کے دو مہینے جن میں سے ایک کا نام اسلام میں محرم پڑ گیا جبکہ دوسرا مہینہ اپنے نام پر باقی رہا۔ الصَفِر جمع أصْفَار: خالی کہتے ہیں: اناءٌ أصْفَارٌ: خالی برتن۔ الصُفْرَة: اسم مرة، بھوک، معدے کا خالی ہونا الصُفَار (ح) پیٹ کا کیڑا۔ الصِفْرِيتُ جمع صَفَارِيت: غریب، مفلس۔ الصَافِر (فا): چور، کہتے ہیں: مابالدار صافِر: گھر میں کوئی نہیں ہے۔ الصَفْرَاء: (ح) وہ ٹڈی جو انڈے دے چکی ہو، چار اخلاط میں سے ایک خلط۔ المُصْفِر (فا) محتاج، حاجتمند۔ المَصْفُور و المُصَفَّر: بھوکا۔

۴۔ الصَفَر: عقل، مغز۔ الصُفْرَة: سیاہی، سیاہ رنگ۔ الصُفَار و الصِفَار: جانور کے دانتوں میں گھاس وغیرہ کا بقیہ۔ الصَفَرِيّ و الصَفَرِيَّة: موسم خریف کی بارش، موسم خریف کا پودا۔ الصافِر: ہر وہ پرندہ جو شکار نہ کرتا ہو۔

۵۔ الصِفْرِد: (ح) بزدلی میں مشہور ایک پرندہ۔

ض صَفَرَ ۔ صَفِيراً: پرندے یا انسان کا سیٹی بجانا (سانپ کا) سوں سوں کرنا (جھینگر کا) چوں چوں، چیں چیں کرنا (سائرن کا) چیخنا۔ صَفِير: سیٹی، سیٹی بجانا (بانسری وغیرہ) کا سُر۔ صَفَّارة جمع صَفَّارات: سیٹی، وسل، سائرن۔ صَفَّارة الامان: خطرہ ٹلنے کا سائرن۔ صَفَّارة الانذار: خطرے سے آگاہ کرنے کا سائرن۔ صَفَّرَ ہ: کو پیلا رنگ دینا، پیلا کرنا، زرد بنانا۔ اِصْفَرَّ: پیلا پڑنا، پیلا ہونا، زرد ہونا، زرد ہو جانا۔ اِصْفَرَّ وَجْهُهُ: وہ زرد پڑ گیا، وہ سفید ہو گیا۔ صُفْر: پیتل، سکے نوٹ روپیہ، روپیہ پیسہ، دولت۔ صَفَر: یرقان۔ صُفْرَة: زرد رنگ، زردی، پیلا پن، زردی (چہرہ کی) چہرے کی بے رونقی۔ صَفَار: پیلا رنگ، کوئی پیلی چیز، چہرے کی زردی، بے رونقی، پیلا پن۔ صَفَّار جمع صَفَّارة: ٹھٹھیرا۔ أصْفَر م صَفْرَاء جمع صُفْر: پیلا، زرد، بیمار سا، بے رونق، ماند، مدھم پھیکا۔ ضحكة صَفْرَاء: زبردستی یا پریشانی کی ہنسی۔ نحاس أصفر: پیتل صفراء: صفراء، پت (بیماری) صُفَيْر: سنہری کوا، زریں زاغ (oriole) صَفَارِيَة: بمعنی بالا۔ صَفْرَاوِي: صفراوی (صفراء بیماری کا یا سے متعلق) غصیلا، تندمزاج، تیز مزاج۔ الحمى الصفراوية: زرد بخار۔ ضحكة صفراوية: تلخ، یا تمسخر آمیز ہنسی۔ اِصْفِرَار: پیلا رنگ، پیلا پن، چہرے کی زردی، بے رونقی۔ مُصْفَرّ: زرد رنگ کیا ہوا، پیلا، زرد بے رونق، ماند، مدھم پھیکا۔ صَفِرَ ۔ صَفَراً و صُفُوراً من: سے خالی ہونا۔ صَفِرَت يَدُه من الشيء: کو کھو دینا۔ صَفَّرَ ہ: کو خالی کرنا۔ أصْفَرَ بمعنی صَفَّرَ۔ صَفْر، صِفْر، صُفْر، صَفِر و صُفُر جمع أصْفَار من: سے خالی، محروم، سے آزاد۔ صِفْر اليدين: خالی ہاتھ۔ صِفْر: زیرو، ہیچ، کچھ نہیں۔ مُصْفِر: خالی ہاتھ۔ مُصْفِر اليد: تہی ہاتھوں کے ساتھ۔ مُصْفِر اليدمن كل شيء: مکمل طور پر قلاش۔

صفع: صَفَعَ - صَفْعًاهُ: کو تھپڑ مارنا، کو گدی پر تھپڑ مارنا۔ صَافَعَهُ و تَصَافَعَ: ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ الصَفْعَانُ و المَصْفَعَانِي: جس کو بہت تھپڑ پڑتے ہیں۔

ض صَفَعَ - صَفْعًاهُ: کو طمانچہ لگانا، تھپڑ مارنا، چانٹا مارنا، مکا رسید کرنا، گھونسا مارنا، تھپڑ مارنا، چپت رسید کرنا، کے منہ پر تھپڑ مارنا، کے کانوں پر تھپڑ لگانا ــــ ہ: (کسی قاعدہ قانون کی) خلاف ورزی کرنا۔ تصافع: ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا (وغیرہ) صفعة: تھپڑ، طمانچہ، چانٹا، گھونسا، چپت، تھپڑا، ضرب۔ صَفَّاع جمع صَفَّاعون: ایک قسم کا بھانڈ۔

صفق: ۱۔ صَفَقَ - صُفُوقًا ہ: کو تھپکی لگانا ــــ الطائرُ بجناحيه: پرندہ کا بازو پھڑپھڑانا۔ العودَ: بربط بجانا، بربط کے تار چھیڑنا۔ لہ بالبيع و صَفَقَ على يده و صَفَقَ يده بالبيعة: سودا کرنے کے لئے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ــــ ہُ بالسيف: کو تلوار سے مارنا۔ ت الريحُ الاشجارَ: ہوا کا درختوں کو ہلانا۔ صَفَّقَ الطائرُ بجناحيه: پرندے کا بازو پھڑپھڑانا ــــ الرجلُ بيديه: تالی بجانا ــــ بيديه: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔ صَافَقَ الرجلان عندالبيع: بیع کے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ أصْفَقَ القومُ: لوگوں کا مضطرب ہونا، پریشان ہونا۔ تصافق القومُ: آپس میں خرید و فروخت کرنا۔ اصْطَفَقَ العودُ: بربط کے تاروں کا ہلنا۔ البحرُ: سمندر میں تلاطم آنا۔ القومُ: لوگوں کا پریشان و مضطرب ہونا ــــ ت الاشجارُ: ہوا سے درختوں کا ہلنا۔ الصَفْقة: بیع پر ہاتھ پر ہاتھ مارنا، سودہ طے کرنا یا ہونا کہتے ہیں: صفقة رابحة و صفقةٌ خاسرة: نفع کا سودہ، گھاٹے کا سودہ۔ ربحت صفقتك: تمہارا سودا نفع والا ہوا۔ الصافقة: مصیبت۔ الصَفَّاق: تجارتی سلسلہ میں بہت سفر کرنے والا، بہت خرید و فروخت کرنے والا۔ صافق کا اسم مبالغہ۔

۲۔ صَفَقَ - صَفْقًا الرجلُ: جانا ــــ الرجلَ عن مراده: کو اس کے ارادہ سے پھیر دینا ــــ عينَهُ: آنکھ بند کرنا ــــ البابَ: دروازہ، بند کرنا، کھولنا (ضد) ــــ الشرابَ: شراب کو نتھارنے کے لئے ایک برتن سے دوسرے میں انڈیلنا۔ صفّق الرجلُ: جانا۔ الشرابَ: شراب کو نتھارنے کے لئے ایک برتن سے دوسرے میں انڈیلنا ــــ حولَ الشيءِ: کے چاروں طرف گھومنا، کا طواف کرنا۔ صَافَقَ الرجلُ بين جنبيه: دونوں پہلوؤں کے درمیان الٹنا پلٹنا۔ أصْفَقَ هُ: کو پھیرنا، رد کرنا۔ البابَ و القدحَ و الشرابَ: دروازہ بند کرنا، کھولنا، پیالہ بھرنا، شراب، نتھارنے کے لئے ایک برتن سے دوسرے میں انڈیلنا۔ تصفّقَ الرجلُ: تردد کرنا۔ اصطفقت النساء على الميت: عورتوں کا میت پر نوحہ کرنا۔ انصفق: جانا، واپس ہونا، پھر جانا۔ الصَفْق: (مص) جمع صُفُوق: دیوار کا پٹ، کونہ جانب۔ صفقُ الجبل: پہاڑ کی سطح۔ صفقا العنق: گردن کی دونوں طرفیں ــــ الفرسِ: گھوڑے کے دونوں رخسارے۔ الصَفَق: کونہ، کنارہ۔ الصِفْق: دیوار کا پٹ۔ الصفائق: آنے جانے والے قافلے۔ المُصَافِق (فا) من الابل: کروٹیں بدل بدل کر سونے والا اونٹ۔

۳۔ صَفَقَ - صَفْقًا القدحَ: پیالہ بھرنا کہتے ہیں: صفقت علينا صافِقَةٌ: ہمارے ہاں ایک جماعت مہمان ہوئی۔ أصْفَقَ الحوضَ: حوض میں پانی اکٹھا کرنا۔ للقوم: کے پاس اس قدر کھانا لانا کہ وہ سیر ہو جائیں۔ کہتے ہیں۔ اصفقوا على قول واحدٍ: وہ ایک بات پر متفق رائے ہو گئے۔ انْصَفَقَ القومُ عليه: قوم کا کسی طرف متوجہ ہونا۔ الصافقة: اترنے والی جماعت۔

۴۔ صَفُقَ - صَفَاقَةً الثوبُ: کپڑے کی بنائی کا گف ہونا۔ صافق بين ثوبين: ایک کپڑے کو دوسرے پر پہننا۔ أصْفَقَ الثوبَ: کپڑے کو گف بنانا۔ الصِفَاق جمع صُفُق: باریک جھلی جو اوپری چمڑے کے نیچے ہوتی ہے، پیٹ پر منڈھی ہوئی جھلی، لکڑی کی ڈھال پر منڈھا ہوا، چمڑہ۔ ثوبٌ صفيقٌ: گف کپڑا۔

۵۔ صَفُقَ - صَفَاقَةً الرجلُ: آدمی کا بے شرم ہونا۔ الصفيق: بے شرم کہتے ہیں: وجه صفيق: بے حیا چہرہ۔

۶۔ أُصْفِقَ لي: میرے لئے مقدر ہوا، مجھے دیا گیا۔ تَصَفَّقَ للامر: کے درپے ہونا۔ الصَفَائِق و الصَوَافِق: حوادث

۷۔ الصَفَق: دماغ کا پچھلا حصہ۔ الصَفُوق جمع صُفُق: پہاڑ جس پر چڑھا نہ جا سکے، بلند چکنی چٹان، نرم کمان۔ المَصْفَق: راستہ۔

ض صَفَقَ - صَفْقًا ہ / ہ: کو تھپڑ لگانا، طمانچہ مارنا، چپت

رسید کرنا۔ ہ کو متحرک کرنا۔۔: تالی بجانا، پھڑ پھڑانا۔ ہ: دروازہ بند کرنا، دروازہ زور سے بند کرنا۔ صَفُقَ ـُ صَفَاقَةً: موٹا ہونا، چوڑا ہونا، گھنا ہونا، گنجان ہونا، بھاری ہونا، (کپڑے کا) گاڑھا یا گف ہونا، صَفَّقَ: پھڑ پھڑانا، تالی بجانا، دونوں ہاتھ سے تالی بجانا (بیدیہ) ۔ لِ: کو باآواز تحسین و آفرین کہنا، واہ واہ کہنا، کیلئے تالیاں بجانا۔ بجناحیہ: بازو پھڑ پھڑانا۔ صَفْقَة جمع صَفَقَات: سودا طے کرنے پر ہاتھ پر ہاتھ مارنا، سودا، معاملہ، کاروبار۔ صفقةً واحدةً: یکا یک، اچانک، بھی ایک ساتھ، تمام کا تمام، سارا، یکسر، تمام، بالکل، پوری طرح۔ أعطى صفقةً و عقد صفقةً: سودا، معاملہ طے کرنا، کاروبار کو جامۂ عمل پہنانا، عمل میں لانا۔ عَادَ (او رَجَعَ) بصفقة المغبون: داؤ ہارنا، خالی ہاتھ واپس آنا۔ كانت له الصفقة الخاسرة: داؤ ہارنا، خالی ہاتھ واپس آنا، سودا ہارنا۔ صِفاق جمع صُفُق: نچلی کھال۔ صَفِيق: موٹا، بھاری، گاڑھا (کپڑا) صفيق الوجه: ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا، گستاخ۔ صَفَاقَة: گستاخی، بے شرمی، بے حیائی۔ تصفيق: تالیاں، باآواز تحسین و آفرین۔ تصفيق الاستحسان: تالیاں، واہ، واہ، باآواز تحسین و آفرین۔

صفن: ۱۔ صَفَنَ ـِ صُفُونًا الفرسُ: گھوڑے کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا اور چوتھی ٹانگ کا صرف سرا ٹکانا۔ ـــ الرَّجُلُ: دونوں قدموں کو ایک قطار میں کرنا۔ بہ الارضَ: کو زمین پر گرانا۔ صَافَنَ القوم: لوگوں کے مقابل کھڑا ہونا۔ الصَّافِن من الخيل جمع صَافِنَات وصَوافِن و صُفُون: تین ٹانگوں پر کھڑا ہونے والا گھوڑا۔

۲۔ صَفَنَ ـِ صَفْنًا الطائرُ الحشيشَ او الورقَ: پرندہ کا اپنے بچوں کے لئے گھاس کے تنکوں یا پتوں کو تہ بتہ جمانا۔ الرجُلَ: کی خصیہ کی تھیلی پھاڑنا۔ الصَّفَن جمع صُفُن و صُفُن و الصَّفَن و أَصْفَان و صُفْنَان: خصیہ کی تھیلی۔ الصَّفَن ج أَصْفَان و صُفْنَان: خصیہ کی تھیلی۔ الصَّفْنَة: اسم مرة۔ الصَّفَنَة: خصیہ کی تھیلی۔

۳۔ صَافَنَ الماءَ بينهم: لوگوں میں پانی تقسیم کرنا۔ تَصَافَنَ القومُ الماءَ: لوگوں کا پانی کو آپس میں تقسیم کرنا۔ الصُّفْن: مشک، چرواہے کا تھیلا۔ الصَّفَن جمع صُفُن و صُفُن و اصفان و صُفْنَان: چمڑے کی چھاگل۔ الصَّفْنَة: دسترخوان، چرواہے کا تھیلا۔ (توبرہ)

۴۔ الصَّافِن جمع صافنات وصوافِن و صُفُون: پنڈلی کے نیچے کی ایک رگ۔ الصَّفْن جمع صُفُن و صُفُن و أَصْفَان و صُفْنَان: مستی کے وقت اونٹ کے منہ کی جھاگ۔ الصَّفْنَة: مستی کے وقت اونٹ کے منہ سے نکلنے والی جھاگ۔

○ صَفَنَ ـِ ب: ایک پاؤں تھوڑا سا اٹھا کر کھڑا ہونا۔ ـــ: غور و فکر کرنا، کڑھنا، بغور سوچنا۔ صَفَن جمع أصفان: خصیوں پر مشتمل کھال کا کیسہ۔

صفا: ۱۔ صَفَا ـُ صَفْوًا و صَفَاءً و صُفُوًّا: صاف ہونا۔ الجوُّ: فضاء کا ابر سے صاف ہونا، مطلع صاف ہونا۔ القدرَ: ہانڈی کا خالص حصہ لے لینا۔ صَفَّى تَصْفِيَةً الشيءَ: چیز کو صاف کرنا۔ الصَّافِي (فا): صاف۔ يوم صافٍ: ابر و غبار وغیرہ سے پاک صاف دن۔ كلأ صافٍ: صاف ستھرا سبزہ یا گھاس۔ الصَّافية جمع صَوَافٍ: الصافی کا مونث، وہ زمین جس کے بسنے والے اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں یا مر گئے ہوں اور انکا کوئی وارث نہ ہو۔ الصَّفْو و الصَّفْوَة و الصُّفْوَة من كل شيء: خالص اور عمدہ چیز۔ عند العامة: راکھ۔ الصِّفْوَة: طرز صفائی۔ ـــ من كل شيء: خالص اور عمدہ چیز۔ عند العامة: راکھ۔ يوم صَفْوَان: صاف دن۔ الصَّفِيّ: ہر خالص چیز۔ المِصْفَاة جمع مَصَافٍ: چھلنی، صافی۔

۲۔ صَفَا ـُ صَفْوًا و صَفْوَ ـُ صَفَاوَةً ت الناقةُ: اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔ الصَّفِيَّة جمع صَفَايَا: بہت دودھ والی اونٹنی، بہت پھل لانے والا درخت خرما۔

۳۔ صَافَى مُصَافَاةً فلانًا: سے خالص محبت کرنا۔ أَصْفَى اصفاءً فلانا الودَّ و أَصْفَى له الودَّ: سے خالص محبت کرنا۔ تَصَافَى القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے سے خالص محبت کرنا۔ اسْتَصْفَى الرجُلَ: کو خالص دوست شمار کرنا کہتے ہیں: استصفاه و اصطفاه: اس نے اسے چن لیا اور مخلص دوست بنالیا۔ الصَّفْو: محبت میں خلوص۔ الصِّفْوة: مخلص دوست۔ الصَّفِيّ جمع أصفياء م صَفِيّ و صَفِيَّة: مخلص دوست۔ المُصْطَفَى: چنا ہوا، برگزیدہ، برتر۔ المُصْطَفى: پولوس پیغمبر کا لقب۔

۴۔ أَصْفَى اصْفَاءً الذى يحفرُ: کھودنے والے کا کھودتے کھودتے اس پتھر تک پہنچنا جو کھدائی کو بند کر دے۔ ت الدجاجة: مرغی کا انڈے دینا بند کر دینا۔ الشاعرُ: شاعر کا شعر کہنے سے رک جانا۔ اسی سے ہے۔ انا شاكرك الذى يصفى و شاعرك الذى لا يُصْفى: میں تمہارا وہ شکر گزار ہوں جو تم سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ شاعر جس کے اشعار نہیں رکتے۔ من المال: بے مال ہونا، مال سے خالی ہونا۔ الصفا: الصفاة: کی جمع پطرس پیغمبروں کے سردار کا لقب (یہ سریانی لفظ ہے اور اس کا معنی چٹان ہے) الصفاه جمع صَفًا و صَفَوَات وجمع الجمع أَصْفَاء و صُفِيّ و صِفِيّ و الصَّفْوَانَة جمع صَفْوَان و صَفَوان والصفواء: سخت بڑا پتھر۔ کہتے ہیں۔ فلانٌ لا تُقْرَعُ له صَفَاةٌ: یعنی فلاں کو کوئی دکھ نہیں دے سکتا۔ فلانٌ لا تندى صَفَاتُهُ: یعنی فلاں بخیل ہے۔ الصِّفوة من الماء و نحوه: تھوڑا پانی وغیرہ۔ الصَّفْوَان: چکنی چٹان۔

۵۔ أَصْفَى هُ بكذا: کو سے مخصوص کرنا، راضی کرنا۔ الشيءَ: چیز تمام کی تمام لے لینا۔ اسْتَصْفَى المالَ: سب کا سب مال لے لینا۔ الصَّفِيّ و الصَّفِيَّة من الغنيمة جمع صَفَايَا: مال غنیمت کا وہ حصہ جس کو رئیس اپنے لئے مخصوص کرے۔

○ صفا ـُ صَفْوًا و صُفُوًّا و صَفَاءً: صاف ہونا یا ہو جانا، غیر آلود، و صاف ستھرا ہونا، صاف شفاف اور نتھرا ہوا ہونا یا ہو جانا، بے ابر ہونا، پرسکون ہونا، متین ہونا، ، خالص ہونا یا ہو جانا۔ صفا لِ: واضح مقصد کیساتھ اور تن دہی سے کوئی کام کرنا یا کی کاوش کرنا، کامکمل طور پر عادی ہونا، تنہا میں مشغول ہونا، منہمک ہونا (دل و ذہن کا) کے لئے خاص کر تیار ہونا۔ صَفَّى ہ: کو صاف کرنا، صاف شفاف کرنا، نتھرا ہوا کرنا یا نتھارنا، خالص بنانا، واضح کرنا، پاک کرنا، خالص بنانا۔ -- مسألةً: کوئی مشکل مسئلہ طے کرنا، سیدھا کرنا۔ -- ہ: کسی چیز سے پانی نکالنا یا انڈیلنا۔ صفاه من الماء: یہی اوپر والا معنی۔ -- ہ: کو نمی سے پاک کرنا، کو خشک کرنا۔ ہ مـــن: کو کچھ دور کر کے صاف کرنا، پاک کرنا، کی تصحیح کرنا۔ ہ: کو نپٹانا، فلٹر کرنا، چھاننا۔ -- ہ: کو نبٹانا، چکانا، ادا کرنا، کا فیصلہ کرنا، قرض ادا کرنا، قرض چکانا، کا دیوالہ نکالنا، وصول کرنا (اثاثہ، سرمایہ)۔ صافاه: سے مخلص ہونا، کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ برتاؤ رکھنا۔ اصفى ہ او لِ: سے مخلص ہونا، کیساتھ دیانت دارانہ برتاؤ رکھنا۔ أصفى: مالک یا قابض نہ رہنا، محروم ہو جانا۔ (حق) ساقط ہو جانا، شعر کہنا بند کر دینا۔ أصفاه بالشيء: کسی چیز کے لئے کو ذہن میں رکھنا، کے لئے کو چننا، منتخب کرنا، دوسروں کے مقابلہ میں کسی کو کوئی چیز دینا۔ دون فلانٍ: کو کچھ عطا کرنا، جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ تصافى: ایک دوسرے سے مخلص ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ دیانت دار ہونا، ایک دوسرے کے لئے خالص نیت رکھنا۔ اصطفى ہ: کو چننا، منتخب کرنا۔ استصفى ہ: کو چننا، منتخب کرنا۔ -- ہ: کو صاف

اور خالص سمجھنا۔ استصفی مالہ کا تمام اثاثہ وصول کرنا، کی جائیداد ضبط کرنا، قرق کرنا۔ صَفو صفائی، وضاحت شستگی، صاف شفاف ہونا، سکون، وقار، متانت، پاکیزگی، خالص ہونا، مطلع کا صاف ہونا، بے ابر ہونا، خوشی، سرور، روانی، برجستگی، صاف، شفاف، پرسکون، خالص، محض۔ صَفوَۃ بہترین حصہ، منتخب ترین حصہ، بہترین۔ لب لباب، عطر، جان، ممتاز افراد، زعماء، جوہر، کامل نمونہ۔ صـفـا اسم جمع واحد صفاۃ جمع صفوات پتھر، چٹانیں۔ صَفوَان پتھر، چٹانیں۔ صِفوۃ مخلص دوست، بہترین دوست۔ دلی دوست، جگری یار۔ صفاء صفائی، صاف شفاف ہونا، سکون، بے ابر ہونا، متانت، خالص ہونا، پاکیزگی، خوشی، روانگی برجستگی، اخلاص، دیانت داری، خلوص، صاف گوئی۔ ساعاتُ صفاء خوشگوار وقت، مسرت بخش گھڑیاں۔ صَـفِـیّ صاف، شفاف، پرسکون، متین، بے ابر، خالص۔ محض جمع أصفیاء خالص دوست، بہترین دوست، دلی دوست۔ صَـفِیّ جمع صَفَایا قائد کا غنیمت میں حصہ۔ مُصَفّی صاف سازی کا کارخانہ۔ مِصفی چھلنی۔ مِصفَاۃ جمع مَصَافٍ چھلنی، فلٹر، چھاننے کا کپڑا۔ صاف کرنے کا کارخانہ۔ مِصفاۃ القھوۃ قہوہ کا فلٹر، قہوے کا ساوا۔ تَصفِیَۃ جمع تصفیات توضیح، وضاحت۔ کلیرنس Clearance، صاف کرنا، پاک کرنا، خالص بنانا، فلٹر کرنا، اخراج، تصفیہ، سیدھا کرنا۔ تطابق، تطبیق، انضباط، حساب بیباق کرنا، دیوالہ، کلیرنس سیل۔ تصفیۃ الحسابات تصفیہ حساب۔ مامور التصفیۃ دیوالیے کا سرکاری، متولی۔ مُصافاۃ تپاک، گرمجوشی، اتفاق، اتحاد، ہم آہنگی، خیر اندیشی، خیر سگالی، خیر خواہی، مخلص رویہ با مزاج۔ تصافٍ پرامن تصفیہ، سمجھوتہ۔ ـــ بین: کے مابین۔ مصالحت۔ اصطفاء انتخاب۔ استصفاء الاموال جائیداد کی قرقی۔ صـافٍ: صاف، شفاف، خالص، سیدھا، غیر ملاوٹ شدہ، پرسکون، اصل، خالص۔ صافی النیۃ مخلص، صاف دل، صاف گو، صاف باطن، بے لاگ، پرخلوص۔ صافی الحمولۃ خالص باربرداری کی گنجائش۔ صافی الارباح خالص منافع۔ مُصَفٍّ دیوالیے کا سرکاری متولی۔ مُصَفًّی پاکیزہ، پاک، خالص، صاف، شفاف، بے ابر۔ مُصطَفًی چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ المُصطفیٰ نبی کریم کا لقب۔

صقب ا۔ صَقِبَ - صَقَبًا المکانُ: جگہ کا قریب ہونا، دور ہونا (ضد)۔ صَاقَبَ صِقَابًا و مُصَاقَبَۃً ہ: کے قریب ہونا نزدیک ہونا کہتے ہیں: لقیتہ صِقابًا میں اس سے روبرو ملا۔ أَصقَبَ ہ: کو قریب کرنا، نزدیک کرنا۔ الشیءُ چیز کا قریب ہونا کہتے ہیں: اَصقَبَکَ الصیدُ شکار تیرے نزدیک آیا اور تمہارے لئے اس کو تیر مارنا ممکن ہوا۔ الصَقَب و الصَقِب قریب نزدیک کہتے ہیں: داری من دارہ بصَقَبٍ میرا گھر اس کے گھر کے قریب ہے۔ الجارُ أحقُّ بصقبہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قریب ہوا جائے۔ المُصَاقَبَۃ (عند المولّدین) موافقت، مطابقت۔ اس کا تلفظ ''س'' سے بھی کیا جاتا ہے۔

۲۔ صَقَبَ - صَقبًا ہ: کو تھپڑ مارنا۔ ـــ الشیءَ کو جمع کرنا۔

۳۔ صَقَبَ - صَقبًا الطائرُ پرندہ کا آواز کرنا۔

۴۔ صَقَبَ - صَقبًا البناءَ: عمارت کو اونچا کرنا، بلند اٹھانا۔ الصَقب (مص) گھر میں سب سے لمبا کھمبا جمع صُقوب جمع صِقاب و صُقبان ہر لمبی چیز۔

۵۔ الصَیقَبانی: عطار، عطر فروش۔

◌ صَاقَبَ ہ: کے قریب آنا یا جانا، کا پڑوسی ہونا۔ ـــ ہ: سے متصل، ملحق ملا ہوا ہونا۔ مُصَاقَبَۃ قرابت داری، رشتہ داری، رشتہ، تعلق (ازار بندی) دوستی، انس، رغبت۔

صقح الصَقَح و الصَقحَۃ: گنج۔ الأَصقَحُ م صَقحاء: گنجا۔

صقر ا۔ صَقَرَ - صَقرًا ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ صَقَرَنی بکلامِہ اس نے باتوں سے مجھے تکلیف پہنچائی یعنی گویا خوب درگت بنائی۔ ـــ بہِ الارضَ کو زمین پر گرانا۔ ـــ الحجارۃَ پتھر کو ہتھوڑے سے توڑنا۔ الصَاقور ہتھوڑا (پتھر توڑنے کا) کدال، زبان۔ الصاقُور و الصاقِرۃ مصیبت، سخت آفت۔ الصَقّار چغلخور، غیر مستحق لوگوں کو لعنت کرنے والا۔

۲۔ صَقَرَ - صَقرًا و صَقَرَۃً تِ الشمسُ او النارُ: آفتاب کا تیز گرم ہونا، آگ کا جلنا۔ ـــ تہُ الشمسُ آفتاب کا کسی کو جھلس دینا۔ النارَ آگ جلانا۔ صَقَّرَ النارَ آگ جلانا۔ أَصقَرَتِ الشمسُ او النارُ آفتاب کا تیز گرم ہونا، آگ کا جلنا۔ تَصَقَّرَ و اصطَقَرَ تِ النارُ: آگ کا جلنا۔ صَقَرُ دوزخ جہنم (غیر منصرف) سقر میں ایک لغت۔

۳۔ صَقَرَ - صَقرًا و اِصقَرَّ اللبنُ: دودھ کی کھٹاس کا تیز ہونا۔ الصَقَر جمع صُقُور و صِقَار سخت کھٹا دودھ۔ الصَقِرَۃ سخت کھٹا دودھ۔

۴۔ تَصَقَّرَ: شکرے سے شکار کھیلنا۔ الصَقر جمع اَصقُر و صُقُور و صُقُورَۃ و صِقَارۃ و صُقُر: (ح) شکرا، ہر شکاری پرندہ، بجز گدھ اور عقاب (شاہین) کے۔ ـــ صائدُ الحیّات: (ح) ایک خوبصورت لمبی ٹانگ پرندہ جس کی خوراک حشرات الارض اور بالخصوص سانپ ہے۔ صقرٌ صَاقِرٌ تیز نظر شاہین۔ الصُقرَۃ: پرندہ کی سبزی یا سیاہی کا سرخی یا زردی سے ملنا۔ امرأۃ صَقرۃٌ: تیز فہم تیز نظر عورت۔

۵۔ تَصَقَّر بالمکان: میں ٹھہرنا۔ الصَقر جمع صُقُور و صِقَار بڑا ہوا پانی۔ الصَقرۃ حوض میں بقیہ پانی۔

۶۔ الصَقر و الصَقَر ترکھجور یا خشک انگور کا شیرہ کہتے ہیں: ھذا التمر اصقر من ذاک یہ کھجور اس سے زیادہ شیرہ والی ہے۔ الصَقِر من الرطب او الزبیب ترکھجور یا خشک انگور جو رس نکالنے کے قابل ہو۔ الصُقَر او الصُقاری کہتے ہیں: جاء بالصُقر و البُقَر او بالصُقاری و البُقاری اس نے جھوٹ بولا۔ الصافُورۃ کھوپڑی کا اندرونی حصہ۔ الصَقّار: کافر، شیرہ ساز، شیرہ فروش۔ ابو مِصقار (ح) ایک قسم کی مچھلی، عام لوگ اسے مِسقار کہتے ہیں اور اس سے پہلے ابو کا لفظ نہیں بولتے۔

◌ صَقُر جمع صُقُور و أصقُر باز، شکرا، شاہین۔ صَاقُور پتھر توڑنے کا ہتھوڑا۔

صقع ا۔ صَقَعَ - صَقعًا ہ: کے سر پر مارنا۔ ـــ بہ الارضَ کو زمین پر پچھاڑ دینا۔ کہتے ہیں: صَقَعَتہُ الصاقعۃ: بجلی اس کے اوپر گری۔ صَقِعَ - صَقَعًا الرجُلُ: بے ہوش ہونا۔ ـــ تِ البئرُ: کنویں کا ڈھے جانا۔ الصاقعۃ: بجلی (آسمان کی) الصقعاء: سورج۔

۲۔ صَقَعَ - صَقعًا الرجُلُ: جانا (کہتے ہیں: ما ادری این صَقَعَ میں نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا) راستہ سے ہٹ جانا یا بھلائی و کرم کے راستہ سے دور ہو جانا۔ الصُقعُ جمع أصقاع گوشہ، کنارہ۔ الصقع دور آنکھوں سے اوجھل جس کا پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ الصاقِع (فا) بہت جھوٹا کہتے ہیں: صَہ صاقِعُ یعنی اے جھوٹے، خاموش رہ۔ الصاقِعۃ: الصاقع کا مونث۔

۳۔ صَقَعَ - صَقعًا و صُقاعًا و صَقِیعًا الدیکُ: مرغے کا چیخنا۔ ـــ صَقعًا و صُقاعًا بصوتہ اپنی آواز بلند کرنا۔ المِصقع جمع مَصاقِع اونچی آواز والا۔ فصیح بلیغ، جو بولتا چلا جائے کہتے ہیں۔ خطیب مِصقَع مقرر جو بولتا چلا جائے۔

۴۔ صَقَعَ - صَقعًا الحمارَ بکیٌّ: گدھے کے سر یا

چہرے پر داغ لگانا۔ صَقِعَ ۔ صَقَعًا الفرسُ او الطائرُ گھوڑے یا پرندے کے سر کا بیچ سے سفید ہونا ۔صفت۔ أَصقع ۔ الصَقِع (مص) سر پر بال کم ہونا یا نہ ہونا۔ الصَقِع گنجا۔ الصُقعة گھوڑے یا پرندے وغیرہ کے سر کے بیچ میں سفیدی۔ الصِقاع: اونٹ کی گدی پر داغ۔ الصَقعاء: الأصقع کا مونث۔

۵۔ صُقِعَ المکانُ: کسی جگہ پر پالا پڑنا۔ صَقِعَ الماءُ او غیـرُهُ: برف کی طرح پانی وغیرہ کا ٹھنڈا ہونا۔ أُصقِعَ الرجلُ یخ پر چلنا۔ الصقیعُ الأرضَ زمین پر پالا پڑنا۔ اُصقِعَ المکانُ: کسی جگہ پر پالا پڑنا۔ الصَقع سخت سردی کی بے آرامی۔ مکانٌ صَقِعٌ وہ جگہ جہاں پالا پڑا ہو، برف گری ہو۔ الصَقعة اسم مرۃ ۔۔ عند المولدین: سخت سردی۔ الصَقاعة (عند المولدین) سرد مزاجی۔ سرد مہری۔ الصَقیع پالا، یخ۔

۶۔ صَقَعَ لِفلان: کسی بات کے لئے کسی سے قسم کھانا۔

۷۔ الصِقاع: اوڑھنی کو چکنائی سے بچانے کے لئے سر پر باندھنے کا رومال، برقع، اونٹنی کے منہ پر باندھنے کی جالی۔ صِقاعُ الخباء تیز ہوا چلنے پر خیمہ کو گرنے سے بچانے کے لئے باندھی جانے والی رسی۔ الصَقیع ایک قسم کی بھڑ۔

۸۔ صَوقَعَهُ: کے سر پر مارنا۔ الصَوقَعة (مص) پگڑی کا وسط، اوڑھنی کو چکنائی سے بچانے کا رومال۔

۹۔ الصَقعَب: لمبا، آواز کرنے والا (دانت یا دروازہ)

۱۰۔ صَقعَرَ فی اذنه: کے کان میں چلانا۔ الصُقعُر: ٹھنڈا پانی، سڑا ہوا پانی۔

○ صَقَعَ ۔ صَقعًا و صُقاعًا: مرغ کا بانگ دینا، ککڑوں کوں کرنا۔ صُقِعَ زمین کا پالے سے ڈھکی ہونا۔ صَقِع برف ہونا، یخ ہونا، یخ ٹھنڈی ہونا، منجمد ہونا۔ صُقع جمع أَصقاع رقبہ، علاقہ، سرزمین، دیہات، ضلع، زمین، مقام، جگہ۔ الأصقاع المتجمدة الجنوبية قطب جنوبی منجمد۔ صَقعة پالا، سخت ٹھنڈ۔ صَقیع پالا، یخ۔ أصقع زیادہ فصیح۔ مِصقَع جمع مَصاقِع فصیح، بلند آواز شخص۔

صقل: ا۔ صَقَلَ ۔ صَقلًا و صِقالًا الشیءَ: کو چکنا کرنا، کو پالش کرنا، جلا دینا، صاف کرنا، کا رنگ صاف کرنا۔ صفت: صاقِل جمع صَقَلة صفت مفعولی: مصقول۔ صَقِلَ ۔ صَقلًا: صیقل شدہ ہونا، چکنا ہونا۔ الصَقّال الصاقل کا مبالغہ۔ الصَقیل: پالش شدہ، صقیل شدہ، تلوار۔ الصَیقَل جمع صَیاقِل و صَیاقِلة: صاقل کا مبالغہ، تلواریں تیز کرنے والا۔

المِصقَلة: جس چیز سے پالش کیا جائے۔ ریگ مار۔

۲۔ صَقَلَ ۔ صَقلًا و صِقالًا الدابّةَ: جانور کو دبلا کرنا۔ الصَقَل گھوڑے کے پہلو کی لمبائی۔ الصُقل پہلو، سبک جانور۔ و الصُقلة: کمر۔ الصَقِل: کم گوشت کا گھوڑا۔ فرسٌ صَقِل لمبے پہلوؤں والا گھوڑا۔

۳۔ صَقَلَ ۔ صَقلًا و صِقالةً بالعصا کو لاٹھی سے مارنا۔ به الارضَ کو زمین پر گرا دینا۔

۴۔ الصَقِل: مختلف چال والا۔ الصِقالة: پاڑ۔ المِصقَل من الخطباء فصیح و بلیغ مقرر۔

○ صَقَلَ ۔ صَقلًا و صِقالًا ۔ہ کو پالش کرنا، رگڑ کر صاف کرنا، صیقل کرنا، جلا دینا۔ ہ: (اسلوب، ذوق وغیرہ) کو شاندار بنانا۔ انصقل صاف و ہموار ہو جانا۔ صَقَّل پالش کرنا، صیقل کرنا، جلا دینا۔ صقل الاذهان ذہنی تربیت۔ صَقیل پالش شدہ، صیقل شدہ، صاف و ہموار، روشن، چمکیلا، چمکدار، بھڑکیلا۔ صَقّال پالش کرنے والا، صیقل کرنے والا، صاف و ہموار کرنے والا۔ صَیقَل جمع صَیاقِلة پالش کرنے والا، صیقل کرنے والا، صاف و ہموار کرنے والا۔ مِصقَلة جمع مَصاقِل وہ اوزار جس سے جلا دی جائے، صیقل کیا جائے۔ مصقول: پالش شدہ، صیقل شدہ، تیز فہم، شاندار (سمجھ)۔

صك: ا۔ صَكَّ ۔ صَكًّا ہ: کو زور سے مارنا، تھپڑ مارنا۔ اصطَكَّ القومُ بالسیوف تلواروں سے ایک دوسرے سے لڑنا۔ الأَصَكّ م صَكّاء جمع صُكّ مضبوط و قوی۔ الصَكّاك: زور سے طمانچہ مارنے والا۔ الصَكیك کمزور ضعیف۔ المِصَكّ مضبوط و قوی۔ المَصكوكات: درہم و دینار۔

۲۔ صَكَّ ۔ صَكًّا الباب: دروازہ بند کرنا۔ المِصَكّ چٹخنی۔

۳۔ صَكَّ ۔ صَكَكًا الرجلُ او الفرسُ: آدمی یا گھوڑے کے گھٹنوں کا چلنے میں آپس میں ٹکرانا۔ صفت۔ اَصَكّ و تصاكّت الرُکَبُ زانوؤں کا ایک دوسرے سے رگڑ کھانا۔ اصطكّت رکبتاهُ چلنے میں گھٹنوں کا آپس میں رگڑ کھانا۔ الأَصَكّ م صَكّاء جمع صُكّ: وہ جس کے گھٹنے چلنے میں آپس میں ٹکرائیں۔ وہ جس کے دانت اور داڑھیں آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ المِصَكّ: مضبوط و قوی۔

۴۔ الصَكّ جمع أَصُكّ و صُكوك و صِكاك کتاب، تحریری معاہدہ، اقرار نامہ (فارسی) الصَكّاك وثیقہ نویس، چیکوں کی حفاظت کرنے والا۔

○ صَكَّ ۔ صَكًّا: مارنا۔ ہ زور دار بند کرنا، مقفل کرنا۔ صکت به الاذانُ نے کانوں کو جھنجھناہٹ ہونا، کانوں کا بجنا۔ صَكَّ سمعَهُ (آواز کا) کانوں پر پڑنا۔ کے کانوں میں گرجنا۔ اصطكّ: آپس میں ٹکرانا (گھٹنوں کا) کانپنا، ہلنا (دانت) بجنا۔ صَكّ جمع صُكوك و صِكاك و اَصُكّ معاہدہ کی دستاویز، قانونی دستاویز، دستاویز، تحریر، چیک (Check, cheque)

صکم: صَكَمَ ۔ صَكمًا ہُ: کو مارنا۔ الفرسُ علی لجامه: گھوڑے کا لگام کو چبا کر گردن دراز کرنا جیسے وہ اپنا غلبہ ظاہر کر رہا ہو۔ الصَكمة سخت صدمہ۔ الصواکم مصائب و حوادث کہتے ہیں: صَكمَتهُ صَواكِمُ الدهر اس پر زمانہ کی مصیبتیں پڑیں۔

صلّ: ا۔ صَلَّ ۔ صَلیلًا السلاحُ: ہتھیار کی جھنکار سنائی دینا۔ الشیءُ آواز کرنا۔ المسمارُ کیل کا کسی چیز میں ٹھونکا جانا۔ ۔۔ت الابلُ پیاس کی وجہ سے اونٹوں کی آنتوں کا خشک ہو جانا اور پانی پیتے وقت ان سے آواز سنائی دینا۔ ۔۔ السقاءُ مشک کا خشک ہونا۔ ۔۔صُلالًا الخفَّ: موزے میں استر لگانا۔ الصِلّ جمع أَصلال شمشیر براں، تیز تلوار۔ و الصَلّ ہلکی اور متفرق بارش۔ الصَلّة اسم مرۃ۔ ہلکی اور متفرق بارش، رنگائی سے پہلے خشک چمڑا، جوتا جو خشک ہونے کی وجہ سے آواز کرتا ہو، رنگائی میں سڑانڈ والا چمڑا، زوردار اور دور دور تک ہونے والی بارش۔ الصِلالة جمع أَصِلّة چرمی موزے کا استر۔ الصَلال و الصُلال من الطین خشک کھنکتی مٹی جو لوہے کی طرح بجے۔ الصَلیل (مص) لوہے یا تلوار کی جھنکار خصوصاً تلوار کی جھنکار۔ المُصَلِّل: کثیر بارش۔

۲۔ صَلَّ ۔ صُلولًا اللحمُ گوشت کا بدبودار ہونا۔ ۔۔ پانی کا رنگ اور مزہ بدلنا۔ أَصَلَّ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ القِدمُ الماءَ دیر تک ٹھہرے رہنے سے پانی کو متغیر کر دینا، سڑانا اور بدبودار کرنا۔ الصِلّ سڑا ہوا گوشت وغیرہ۔ الصَلّة بچا ہوا پانی وغیرہ۔ ماءٌ صلال: متغیر پانی۔

۳۔ صَلَّ ۔ صُلًّا الشرابَ: مشروب یا شراب صاف کرنا۔ الحبَّ المختلط بالتراب پانی ڈال کر دانہ کو مٹی سے علیحدہ کرنا، اس کا مشہور فعل صَوَّل ہے کہتے ہیں۔ صَوَّلت المرأةُ القمحَ وغیرہ عورت نے گندم کو مٹی سے صاف کیا۔ صُلالة الحبّ غلہ کا کوڑا کرکٹ۔ المِصَلّة صاف کرنے کا برتن۔

۴۔ صَلَّ ۔ صَلّات الصالّة القومَ: قوم کو مصیبت پہنچنا۔ الصِلّ جمع أَصلال مصیبت (ح) ایک بہت

زہریلا سانپ کہتے ہیں: ھو صِلُّ أصلالٍ: وہ بڑا ہی چالباز اور فریبی ہے۔ الصَّالّة: مصیبت۔

۵۔ الصِّل جمع أصلال: ہمسر، ثانی کہتے ہیں: ھذا صِلُّ ذاك: یہ اس کا مدمقابل ہے۔ الصَّلّة: سرین، تازہ گھاس کے متفرق ٹکڑے، تر مٹی۔ الصُّلّة: بدبودار ہوا۔ المُصَلِّل: شریف، فیاض سردار، خالص النسب

۶۔ صَلْصَلَ صَلْصَلَةً الحلیَ او اللجام: زیور، یا لگام کا آواز دینا۔ الرعدُ: بادل کا صاف گرجنا۔ —— الجرسُ: گھنٹی کا گونجنا۔ فلانًا: کو دھمکی دینا۔ تَصَلْصَلَ اللجامُ اولحليُّ: زیور یا لگام کا آواز دینا۔ الصَّلْصَال: سوکھی بجنے والی مٹی (ط ا) ریت سے ملی ہوئی مٹی۔ — و الصُّلاصِل و المُصَلْصِل: آواز دینے والا گدھا۔

۷۔ الصُّلْصُل: گھوڑے کی پیشانی، گھوڑے کی پیٹھ کا سفید حصہ۔ چھوٹا پیالہ، برتن میں بچا ہوا پانی وغیرہ، ماہر چرواہا۔ الصَّلْصَالَة: زمین جس پر کوئی نہ ہو۔ المُصَلْصَل: (مصدر میمی) شریف فیاض سردار، خالص النسب۔

○ صَلَّ ۔ صَلِيلا: بجنا، چھن چھن کرنا، جھنکار پیدا کرنا، کھڑکھڑانا، جھن جھن کرنا۔ صِلّ جمع اصلال: ایک قسم کا زہریلا سانپ۔ صَلِيل: کھڑکھڑاہٹ، گڑگڑ، جھن جھن، پھٹ پھٹ، گڑگڑاہٹ (ہتھیاروں کا) تصادم، ٹکراؤ (سکوں کی) جھنکار، چھن چھن، جھنا کا۔

صلب: ۱۔ صَلَبَ ۔ صَلْبًا ہُ: کو سولی دینا۔ صَلَبَ اللصَّ: چور کو سولی دینا۔ المسيحيّ: عیسائی کا اپنے اوپر ہاتھ کے اشارہ سے صلیب بنانا۔ الصَّلَبُوت: (عیسائیوں کی اصطلاح میں)، چھوٹی صلیب۔ الصَّلِيب جمع صُلْبان و صُلُب: سولی جس پر جناب مسیح کو سولی دی گئی، سولی کا نشان، جو دو متقاطع خطوں کی شکل کا ہوتا ہے، سولی۔ جمع صُلُب: سولی دیا گیا (شخص) اونٹ کا داغ۔ ذو الصليب: الاخطل، نصرانی شاعر کا لقب۔ بعیر مُصَلَّب م مُصَلَّبَة: اونٹ جس پر صلیب جیسا نشان ہو۔ شیءٌ مُصَلَّب عليه: وہ چیز جس پر صلیب کی تصویر بنی ہو۔ ثوبٌ مُصَلَّب: وہ کپڑا جس پر صلیب جیسی شکل بنی ہو۔ مُصَلَّب الطرق (عند العامة): چوراہا۔ بعیرٌ مَصْلُوب م مَصْلُوبة: وہ اونٹ جس پر صلیب جیسا داغ ہو۔

۲۔ صَلَبَ ۔ صَلْبًا العظامَ: ہڈیوں سے گودا نکالنا۔ اصطلب العظامَ: ہڈیوں کا گودا نکالنا۔ الصُّلْب جمع أصْلاب و أصْلُب و صِلَبَة: ریڑھ کی ہڈی۔ و۔ جمع صِلَبَة: حسب کہتے ہیں۔ ھو من صُلْبِ فلان: وہ اس کی نسل اور اولاد سے ہے۔ الصَّلَب جمع صِلَبَه و أصْلاب: ریڑھ کی ہڈی، گودا۔ الصالِبُ والصالَب: ریڑھ کی ہڈی۔ الصُّلَّب: ریڑھ کی ہڈی۔ الصَّلِيب جمع صُلُب: گودا، (کہتے ہیں: استخرج صَلِيبَ العظم: اس نے ہڈی کا گودا نکالا)۔ خالص نسب والا کہتے ہیں: ھو عربيٌّ صليبٌ: وہ خالص عربی نسب کا ہے۔

۳۔ صَلُبَ ۔ و صَلِبَ ۔ صَلابةً: سخت ہونا۔ — علی المال: بخیل و کنجوس ہونا۔ صَلَّبَ الشيءَ: چیز کو سخت کرنا۔ الشيءُ: سخت ہونا، خشک ہونا۔ تَصَلَّبَ: سخت ہونا۔ الصُّلْب جمع اصلاب و اَصْلُبٌ: سخت، کٹر۔ کہا جاتا ہے: ھو صُلْبٌ في دينه: وہ اپنے دین میں سخت ہے۔ راعٍ صُلْبُ العصا: اونٹوں پر سختی کرنے والا چرواہا۔ جمع صِلَبَة: قوت، طاقت، موٹے پتھروں والی جگہ، فولاد۔ الصَّلَب جمع صِلَبَة و أصلاب: وہ زمین جو سخت ہو، ان زمینوں کو کہا جاتا ہے جو عرصہ تک پڑی رہیں اور جوتی نہ جائیں: انها لأصْلابٌ منذ اعوام: یعنی کئی سالوں سے غیر مزروعہ ہیں۔ الصُّلَّب: سخت، سان۔ الصُّلَّبَة: سان کے پتھر۔ الصُّلَّبِيّ: سخت، سان پر پالش اور تیز کیا ہوا۔ سِنان صُلَّبِيّ: تیز کی ہوئی نیزہ کی انی۔ الصُّلَّبِيَّة: (جس میں تاء مبالغہ کی ہے)۔ بہت سخت۔ الصَّلِيب جمع صُلُب: سخت۔ ماءٌ صَلِيبٌ: پانی جس کی وجہ سے مویشی مضبوط اور سخت ہو جائے۔ سنانٌ مُصَلَّب: تیز کی ہوئی نیزہ کی انی۔

۴۔ صَلَبَ ۔ صَلْبًا اللحمَ: گوشت بھوننا۔ ـتهُ الشمسُ: آفتاب کا کسی کو جھلس دینا۔ ـت عليه الحُمّى: کسی کو بخار کا چمٹ جانا اور تیز ہونا۔ صفت۔ مصلوب عليه الصالِب (فا) حُمّى صالِبٌ: جاڑے لرزے کا سخت بخار۔

۵۔ صَلَبَ الحجرَ: پتھر اٹھانا (سریانی)۔ أصْلَبَتِ الناقةُ: بچہ کو دودھ پلاتے وقت اونٹنی کا گردن کو آسمان کی طرف اٹھانا۔

۶۔ الصُّلَب: (ح) ایک پرندہ۔ الصَّلِيب جمع صُلُب: جھنڈا۔

○ صَلُبَ ۔ صَلابَةً و صَلِبَ ۔: سخت ہونا، مضبوط و ٹھوس ہونا، جمنا، اکڑنا، کڑا ہونا۔ صَلَّبَ ہ / ہ: کو سخت بنانا، مضبوط کرنا، ٹھوس بنانا، بے لوچ بنانا۔ ہ: کا بوجھ اٹھانا، کو اٹھائے رکھنا، کا سہارا ہونا، کو تھامے رکھنا۔ —— ہ: (دل) سخت کرنا۔ تَصَلَّبَ: سخت ہونا، مضبوط ہونا، ٹھوس ہونا، جمنا، کڑا ہونا، اپنے آپ کو سخت ظاہر کرنا۔ صُلْب: سخت، فولاد، جمع أصْلُب و أصْلاب: ریڑھ کی ہڈی، پٹھا (کتاب وغیرہ کا) متن۔ صُلْب الرای: ضدی، ہٹ کا پکا، ہٹ دھرم، خودسر، سرکش، خود رائے، اپنی رائے سے نہ ہٹنے والا۔ صَلْب الرَّقَبة: ضدی ہٹ کا پکا، ہٹ دھرم، خودسر، سرکش، خود رائے، اپنی رائے سے نہ ہٹنے والا۔ صُلْب العُود: مضبوط جسم کا، ہٹا کٹا، قوی ہیکل، ضدی، ہٹ دھرم، مدافعت کرنے والا، نہ جھکنے والا، بے رحم، بے درد۔ ھو ابن صُلْبِه: وہ اس کا اپنا بیٹا ہے۔ اولاد ہے۔ درامة مستخرجة من صُلْب الحياة: حقیقی زندگی سے ماخوذ ڈرامہ۔ فی صلبه: دل میں، اپنے دل کی گہرائی میں۔ صَلِيب: سخت، مضبوط، ٹھوس، کڑا۔ صَلابَة: سختی، بے حسی، بے رحمی، ضد، ہٹ دھرمی، سرکشی منہ زوری، نہ جھکنا، تقشف، عدم رواداری۔ صَلابَة العُود: سختی، شدت، ضد، ہٹ دھرمی، بے لوچ ہونا، بیرحمی، بیدردی۔ تصلب: سختی، بے حسی۔ متصلب: نہ جھکنے والا، بے لچک، بیرحم، سخت۔ صَلَبَ ۔ صَلْبًا ہ: کو سولی دینا، سولی پر لٹکانا یا چڑھانا۔ صَلَّبَ علی: پر صلیب کا نشان بنانا۔ —: بلیات سے محفوظ رہنے کے لئے، صلیب بنانا، — ہ: ہاتھ باندھنا۔ صَلْب: سولی دینا، دار کشی۔ صَلِيب جمع صُلْبان صُلُب: صلیب، سولی۔ الصليب الاحمر: ریڈ کراس۔ شارة الصليب و اشارة الصليب: صلیب کا نشان۔ عُود الصليب: Peony ایک پھولدار پودا۔ الحروبُ الصليبية: صلیبی جنگیں۔ الصليبيون: صلیبی جنگجو۔ صَلَبُوت: صلیب پر مسیح کا چھوٹا سا مجسمہ۔ مُصَلَّب: چوراہا۔

صلت: ۱۔ صَلَتَ ۔ صَلْتًا الفرسَ: گھوڑے کو ایڑ لگانا۔ الصلت في عَدْوِه: دوڑ میں دوسرے سے آگے نکل جانا۔ الصَّلْت والاصْلِيت و المُنْصَلِتُ من الرجال: بہادر سرگرم۔ من السيوف: صیقل شدہ، پار ہونے والی تلوار۔ الصَّلَتان و الأصْلَتِيّ والإصْلات و المُصْلَتُ والمِصْلاتُ من الرجال: بہادر سرگرم کہتے ہیں۔ ھو من مصاليت الرجال: وہ بہادر اور چست و سرگرم مردوں میں سے ہے۔

۲۔ صَلُتَ ۔ صُلُوتةً الرجُلُ: کشادہ، ہموار، پیشانی والا ہونا۔ أصْلَتَ السيفَ: تلوار کو میان سے باہر نکالنا، تلوار سونتنا۔ الصَّلْت: چمکدار، ہموار ابھری ہوئی پیشانی کہتے ہیں: جبينٌ صَلْتٌ: چمکدار ہموار ابھری ہوئی پیشانی۔ والصُّلْت جمع أصْلات: بڑی چھری۔

۳۔ المُصَالَتَة: شاعر کا دوسرے شاعر کے شعر کو لفظاً و معناً

چرالینا، یہ بدترین شعری سرقہ ہے۔

صَلُتَ ۔صُلُوتَةً: چمکدار ہونا، بھڑکیلا ہونا، ہموار ہونا۔ أصلت السیفَ: تلوار کو میان سے نکالنا۔ اُصلِت السیف: تلوار کا میان سے باہر نکلنا۔

صلج: ۱۔ صَلَجَ ۔صَلْجًا الفضةَ: چاندی کو پگھلانا۔ الصُلُج: کھرے درہم۔ خالص چاندی۔ الصَولج: پگھلی ہوئی صاف خالص چاندی کی اینٹ الصَلیجَة:

۲۔ صَلَجَ ۔صَلْجًا ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔

۳۔ صَلِجَ ۔صَلَجًا سمعُہُ: بہرا ہو جانا۔ تَصالَجَ الرجُل: بہرا ہونے کا تصنع کرنا، بہرا بننا، کان نہ دھرنا۔ الصَولَج: کان، کان کا سوراخ۔

۴۔ الصُلجَه جمع صُلَج: ریشم کے کیڑے کا خول، کویا۔ الصَولج: ٹیڑھی لکڑی۔ الصَولَجان والصَولَجانة جمع صَوالجة: ٹیڑھے سرے والی لاٹھی۔ اسی سے ہے صولجان الملك: عصائے شاہی۔ الأصْلَج: بہت چکنا۔

صلح: ۱۔ صَلُحَ ۔و صَلَحَ ۔صَلاحًا و صُلُوحًا و صَلاحِيةً: درست وٹھیک ہونا، کی خرابی کا دور ہونا کہتے ہیں۔ صلحت حالُ فلان: اسکی حالت کی خرابی دور ہوگئی اور مجاز کے طور پر کہتے ہیں۔ هذا يصلُح لك صَلاحًا: یہ تمہارے لئے موزوں اور مفید ہے۔ الرجُلُ: نیک ہونا۔ فی عمله: کام میں درست ہونا۔ صالَحَ صِلاحًا و مُصالَحة ہُ: کے موافق ہونا۔ أَصْلَحَ الشيءَ: چیز کو ٹھیک کرنا، درست کرنا۔ ۔ الیه: کے ساتھ نیکی کرنا۔ کہتے ہیں۔ اَصلح اللّٰهُ له فی ذریته وماله: اللہ اس کی اولاد اور مال میں اس پر احسان فرمائے۔ اِسْتَصْلَحَ الشيءُ: ٹھیک ہونا۔ الصَلاح: (مص) اچھائی موزونیت مفید ہونا، افادیت، نیکی، انصاف، دیانتداری، پارسائی، تقویٰ۔

الصلاحية: وہ حالت جس سے چیز کی درستی ہو۔ الاصْلاحِيَّة جمع اصلاحِيّات: حکومتی ادارہ جس میں نوعمر مجرموں کے اخلاق درست کرنے کے لئے قید کیا جاتا ہے اور انہیں کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ رہا ہو کر اپنی روزی کما سکیں، اصلاحی قید خانہ۔ الصالح جمع صالحون و صُلّاح: درست، ٹھیک، نیک، حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا کہتے ہیں۔ هو صالحٌ لکذا: وہ اس کا اہل ہے، کبھی کثیر کے معنی بھی دیتا ہے جیسے له حظٌ صالحٌ من الادب: یعنی اس کا ادب میں کافی حصہ ہے۔ الصالحة: صالح کا مونث کہتے ہیں۔ اتتنی صالحة من فلان: فلاں کی طرف سے مجھ کو بہت نعمت یا بھلائی پہنچی۔ الصلح ج صالح۔ الصلیح ج صُلَحاء: صالح۔ المَصْلَحة جمع مَصالِح: نیک تجویز۔ مصلحت کہتے ہیں۔ هو من اهل المفاسد لا المصالح: وہ ایسے کام کرنے والوں سے ہے جو برائی کا باعث ہوتے ہیں، کسی اچھائی یا بھلائی کی ترغیب نہیں پیدا نہیں کرتے۔

۲۔ صالَحَ صِلاحًا و مُصالَحةً ہُ: سے صلح کرنا۔ أصلح بینهم: کے مابین صلح کرانا۔ تَصالَح واصْتَلَحَ واصْطَلَحَ و اِصَّلَحَ القومُ: صلح صفائی سے رہنا۔ الصُلح: سلامتی، مصالحت کا اسم ہے (مذکر و مونث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے) کہتے ہیں۔ هُم لنا صُلح: یعنی ان کی ہم سے صلح ہے۔ (عند ارباب السیاسة): امن۔ الصُلُوح: کہتے ہیں۔ قومٌ صُلُوحٌ: آپس میں موافقت رکھنے والے لوگ الاصطلاح جمع اصطلاحات: کسی خاص قوم یا جماعت کا کسی لفظ اور کلمہ کے معنی پر اتفاق کرنا جو اصل معنی کے علاوہ ہو۔

صَلَحَ ۔ صَلاحًا و صُلُوحًا و مَصلحَةً و صَلُحَ ۔صَلاحًا صَلاحِيةً: اچھا ہونا، ٹھیک ہونا، مناسب ہونا، نیک ہونا، خدا ترس ہونا، خدا پرست ہونا، دیندار ہونا، اچھا ہونا، خوب کامیابی سے چلنا، پنپنا، مفید ہونا، قابل عمل ہونا، کارآمد ہونا، پائیدار ہونا، موزوں ہونا ل (کے لئے)۔ لِ کے لئے موزوں ہونا، میں مفید ہونا۔ سے خوب میل کھانا، ملتا جلتا ہونا۔ مع کے فٹ آنا، پر منطبق ہونا۔ (میں، پر، کیساتھ) قابل قبول، قابل تسلیم، قابل تقریر یا اہل ہونا، جائز ہونا، روا ہونا۔ صَلَّحَ ہ: کو ترتیب سے رکھنا، موافق یا مطابق بنانا، مرمت سے بالکل پہلا سا بنا دینا، سدھارنا، کی تلافی کرنا، کی مرمت کرنا، کو بہتر بنانا، کی اصلاح کرنا۔ صالَحَ ہ: کے ساتھ صلح کرنا، تصفیہ، مصالحت، سمجھوتہ کرنا۔ بین: کے مابین امن قائم کرنا، میں مصالحت کرانا، صلح کرانا۔ أَصْلَحَ ہ / من: کو ترتیب سے رکھنا، کے مطابق یا موافق بنانا، جانچ پڑتال کر کے یا کھول کر ٹھیک کرنا، مرمت کر کے پہلا جیسا بنا دینا، دوبارہ تعمیر کرنا، ترمیم کرنا، کی تلافی کرنا، بہتر بنانا، کی اصلاح کرنا، مرمت کرنا۔ ہ: کو موزوں یا فٹ بنانا، موافق یا مطابق بنانا، کو بدلنا، ترمیم کرنا۔ کی اصلاح کرنا، کا علاج کرنا، چارہ کرنا۔ ہ / من: زمین کو قابل کاشت بنانا، کاشت کرنا۔ ہ: کو ترقی دینا، بڑھانا، کے لئے کام کرنا، کو تقویت پہنچانا، کی ہمت بڑھانا، کا دل بڑھانا، کو جرأت دلانا۔ ہ: کو فروغ دینا، کو خوش قسمت بنانا۔ بین: کے درمیان صلح کرانا، کو متحد کرنا، کے درمیان سمجھوتہ کرانا، کو راضی کرنا۔ تَصالَحَ: ایک دوسرے سے صلح کرنا، ہم آہنگ ہونا۔ اِنْصَلَحَ: ٹھیک ہونا، صحیح ہونا، ترقی یافتہ ہونا، سدھرنا۔ اصطلح: بمعنی تَصالَحَ ونیز ۔ علی: پر رضامند ہونا، کو قبول کرنا، اختیار کرنا۔ اِسْتَصْلَحَ ہ: کو اچھا، مناسب، موزوں، فٹ، کارآمد، قابل عمل یا پائیدار سمجھنا۔ ہ: زمین کو قابل کاشت بنانا، زمین پر کاشت کرنا۔ صُلح: امن، صلح، مصالحت، تصفیہ، ترتیب، دوستی، سمجھوتہ، صلح کرانا، جھگڑا چکانا، امن کا فیصلہ۔ لَجنةٌ صُلحِيةٌ: ثالثی کمیٹی۔ صلاحية: مناسبت، موزونیت، اہلیت، استعداد، لیاقت، افادیت، قابل عمل ہونا خوبی، کارآمد ہونا، صحیح یا کام کی حالت (مشین وغیرہ کی) قابلیت، قانونی طور پر جائز ہونا، معقول ہونا۔ موزونیت، مطابقت جمع صَلاحِيّات: کامل یا انتدابی اقتدار، مختار نامہ یا صلاحية تامة: (اس معنی میں) جهات ذات الصلاحية: اہل یا مجاز ارباب اختیار۔ مُطلَق الصلاحية: plenipotentiary (ڈپلومیٹ) مدار المهام: اَصْلَح: بہتر زیادہ مناسب، زیادہ صحیح، زیادہ نیک، زیادہ موزوں، زیادہ شان شایاں۔ مَصْلَحَة جمع مَصالِح: معاملہ، قضیہ کام بات ضرورت۔ ہنگامی صورت حال، ہر وہ بات جو سودمند، مفید، یا تقویت پہنچانے والی ہو۔ فائدہ، نفع، منفعت، بہتری، مفاد، دلچسپی، خیر، بہبود، بہبودی، حاکم، ذی اقتدار، محکمہ، حکومتی ایجنسی، انتظامیہ۔ مصلحة الاثار المصرية: مصری آثار قدیمہ کی انتظامیہ۔ مصالح الامة: بہبود عوام۔ مصلحة البريد: محکمہ ڈاک۔ مصلحة الحدود: مزروعہ علاقہ سے باہر کے علاقوں کی انتظامی ایجنسی۔ المصالح الحكومية: حکومتی ایجنسیاں۔ مصلحة الصحة: محکمہ صحت۔ المصلحة العامة: عوامی بہبود۔ فی مصلحة فلان: فلان کے مفاد میں۔ فی المصلحة و المَفْسَدَة: اچھے اور برے وقتوں میں، بہتر اور بدتر کے لئے۔ لمصلحة فلان: کے حق میں، کے مفاد میں، کی منفعت کے لئے، یا کی خاطر، کے مفاد میں۔ خدم مصالح فلان: کے مفاد کے لئے کام کرنا، کے مفادات کی خدمت کرنا۔ معهد اصلاحی: اصلاحی قید خانہ۔ السلف الصالح: قابل احترام آباؤ اجداد۔ صالحُ السَير: قابل گزر (سڑک) صالح للعمل: کام کے لئے موزوں، استعمال کے لئے تیار، کام کے لائق، قابل عمل۔ صالح لِ: کے لئے قابل قبول، پر منطبق۔ الصالح العام: بہبود عوام فی صالح: کے حق میں، کے مفاد میں۔ لِصالح: کی

معنی۔کان من صالحِهِ: یہ اس کے مفاد میں تھا۔
صوالح شخصية: ذاتی مفادات۔المصالحات: اچھے اعمال، نیک اعمال۔

صلخ: ا۔صَلِخَ۔صَلَخًا سمعُهُ: بہرہ ہونا۔صَالَخَ الرجُلُ: بہرہ بننا۔الأصلخ م صَلْخاء جمع صُلْخ: بہرہ۔الصَلَخ: (مص) بہراپن۔
۲۔اِصْلَخَّ: لیٹنا۔
۳۔الصَالخ: خارش۔کہتے ہیں جَرَبٌ صالخٌ و سالخٌ (ح) کالا سانپ۔الأصلخ م صَلْخاء جمع صُلْخ من الجمال: خارشی اونٹ۔الصَلَخ: خارش۔ صَلُوخ: مہلک مصیبت۔
۴۔اِصلَخَدَّ الرجُلُ: سیدھا کھڑا ہونا۔المُصلَخِد و الصِلْخَد و الصِلَّخد و الصِلْخاد و الصُلاخِد و الصَلَخدَی جمع صَلاخِد: قوی، ذہین دلیر۔
۵۔الصَلَخدَم من الابل: طاقت ور اونٹ۔

صلد: ا۔صَلَدَ۔صُلُودًا الزندُ: چقماق کا بغیر آگ نکالے ہوئے آواز دینا۔السائلَ: سائل کو کچھ نہ دینا۔ صَلُدَ۔صَلادَةً: کنجوس ہونا۔صَلَّدَ۔تَصْلِيدًا: کنجوسی کرنا۔أصْلَدَ الزندُ: چقماق کا بغیر آگ نکالے آواز دینا۔۔۔ الرجلُ: کی چقماق کا آگ نہ دینا۔۔۔ الزندَ: چقماق کو بغیر آگ نکالے آواز دینے والا کر دینا۔فرسٌ صَلْدٌ: وہ گھوڑا جس کو پسینہ نہ آئے (یہ گھوڑے کی بری صفت ہے) رَجُلٌ صَلْدٌ: کنجوس مرد۔المُصالد (فا): آگ نہ دینے والا چقماق۔ الصالِدَة جمع صَوالِد۔ صالد کا مونث۔الأصلَد م صَلْداء جمع صُلْد: کنجوس عودٌ صَلادٌ: لکڑی جس سے آگ نہ جلے۔الصَلُود: آگ نہ دینے والا چقماق۔بہت ہی کنجوس۔قِدرٌ صَلُودٌ: دیر سے ابلنے والی ہانڈی۔امرأةٌ صَلُودٌ: بے برکت عورت۔ فرسٌ صَلُودٌ: گھوڑا جسے دیر سے پسینہ آئے۔عود مِصلاد: لکڑی جس سے آگ نہ جلے۔ناقة مِصلاد: بچہ والی بے دودھ کی اونٹنی۔
۲۔صَلَدَ۔صُلُودًا تِ الارضُ: زمین کا سخت ہونا۔۔۔صُلعتُهُ: گنج کا چمکنا۔أصلَدَتِ الارضُ: زمین کا سخت ہونا۔الصَلْد جمع أصلاد: سخت چکنا، بنجر کہتے ہیں۔ارضٌ صَلْدٌ و مکانٌ صَلْدٌ: زمین اور جگہ جہاں کچھ نہ اگے۔جبینٌ صَلْدٌ: سخت پیشانی۔رأسٌ صَلْدٌ: وہ سر جس پر بال نہ اگیں۔الصَلُود: سخت، خشک۔الصَلَودَد: سخت، چکنا۔الصِلداء و الصِلِدّاءَة: سخت ناہموار زمین۔
۳۔صَلَدَ۔صَلَدَاتِ الدابةُ: جانور کا دوڑتے وقت پاؤں زمین پر مارنا، کھڑا ہونا۔۔۔ بیدیه: دونوں ہاتھ سے تالی بجانا۔الصالِدَة جمع صَوالِد: پیسنے میں آواز نکالنے والا دانت۔
۴۔صَلَدَ۔صَلدًا الرجُلُ فی الجبلِ: پہاڑ پر چڑھنا
۵۔الصَلُود و الصَلِید: اکیلا۔
۶۔الصَلْدَح: چوڑا پتھر۔الصَلَوْدَح: بہت سخت۔
۷۔الصَلْدَم جمع صَلادِم: سخت، سخت سموں والا (ح) شیر۔
○ صَلُدَ۔صَلادة و صلودةً: سخت مضبوط یا ٹھوس ہونا یا ہو جانا (زمین وغیرہ کا) أصلَدَ: یہی معنی صَلْد جمع اصلاد: سخت، مضبوط، ٹھوس، خشک، بنجر، بے آب و گیاہ (زمین) سخت، بے لوچ، مردہ، بے جان، بے کیف، بے حس و حرکت جماد۔صُلُودَة: سختی، مضبوطی، ٹھوس پن (زمین وغیرہ کا)

صلر: الصِلَّور: (ح) دریا کی ایک مچھلی۔

صلص: الصالصَة: (ط) ٹماٹروں، لیموں یا مصالحوں کے رس سے بنایا ہوا شیرہ۔
○ صَلْصَة جمع صلصات و صلص: چٹنی (اٹلی زبان کا لفظ)

صلط: ا۔الصَلَطة او الصَلاطَة (ط): سرکہ یا ترشہ سے تر سبزیوں نیز نمک، لہسن تیل اور رائی سے تیار کردہ خوراک۔ (اٹلی کی زبان کا لفظ)
۲۔اِصلَنطَحَتِ البطحاءُ: ہموار زمین کا کشادہ ہونا۔ الصُلاطِح و المُصلَطِح: چوڑا، وسیع۔

صلع: ا۔صَلِعَ۔صَلَعًا: کے سر کے اگلے حصہ کے بالوں کا گر جانا۔صفت الأصلع جمع صُلْع و صُلعان کہتے ہیں صَلِعت الشجرةُ: درخت کی شاخوں کے سرے جھڑ گئے۔صَلَّع الشیءَ: کو اچھی طرح یا خوب ظاہر کرنا (عام زبان میں) صفت مفعولی مُصَلَّع: (عام زبان میں)۔انصَلَعَتِ الشمسُ: سورج کا بادلوں کی اوٹ سے نکل کر چمکنا۔۔۔تِ الحیَّةُ: سانپ کا صاف ستھرا مٹی کے بغیر نکلنا۔ تَصَلَّعَتِ الشمس: سورج کا بادلوں کی اوٹ سے نکل کر چمکنا۔۔۔تِ السماءُ: بادلوں سے ابر کا ہٹ جانا، چھٹ جانا۔الحیَّةُ: سانپ کا صاف ستھرا اور مٹی میں آلودہ ہوئے بغیر نکلنا۔الصَلَع (مص): سر کے اگلے حصہ سے بالوں کا غائب ہونا۔الصُلْعَة و الصَلَعَة: سر کا گنجا حصہ۔کہتے ہیں۔صَكَّهُ علی صُلعَتِهِ: اس نے اس کے سر کے گنجے حصہ پر مارا۔ الصَلعاء جمع صُلْع: الأصلع کا مونث۔خالی بیابان۔برملة صَلعاء: زمین کا ریتلا قطعہ جس پر کوئی درخت نہ ہو۔الصُلَّع و الصُلاَّع و الصَلِيع: چوڑی چٹان۔من الأمكنة: کچھ نہ اگاتے والی جگہ۔ رأسٌ صَلِيع: سر جس کے اگلے حصہ کے بال گر گئے ہوں۔
۲۔صِلاعُ الشمسِ: سورج کی گرمی۔الصَلعاءُ: مصیبت۔جمع صُلْع۔
۳۔صَلْعَم: صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف۔
○ صَلِعَ۔صَلَعًا: گنجا ہونا۔صَلَع: گنجا پن۔صُلعَة و صَلعَةٌ: گنجی چندیا، گنجا سر۔أصلَع م صَلعاءُ جمع صُلع و صُلعان: گنجے سر والا۔
○ صَلِعَ۔صَلَعًا: گنجا ہونا۔صَلَع: گنجا پن صُلعَة و صَلعَة: گنجی چندیا، گنجا سر۔أصلَع م صَلعاءُ جمع صُلع و صُلعان: گنجا، گنجے سر والا۔

صلف: ا۔صَلِفَ۔صَلَفًا: ڈینگ مارنا۔صفت صَلِف جمع صَلِفُون و صُلفاء صَلافَی۔۔۔ لصاحبه: اپنے ساتھی کے متعلق ناپسندیدہ باتیں کرنا۔تَصَلَّفَ: بتکلف، ڈینگیں مارنا، چاپلوسی کرنا۔
۲۔صَلِفَ۔صَلَفًا السحابُ: بادل کا بہت گرجنا اور کم برسنا۔تِ المرأةُ عند زوجها: عورت کا خاوند کی نظر میں کم قدر ہونا۔صفت صَلِفَة جمع صَلِفات و صَلائف: اس سے مثل ہے من یبغ فی الدین یَصلَف: جو شخص لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور دین سے تمسک نہ رکھے، وہ لوگوں کی ہمدردیاں کھو بیٹھتا ہے۔أصلَفَ: بے خیر ہونا۔فلانًا: کو ناپسند کرنا، سے نفرت کرنا۔تَصَلَّفَ القومُ: سخت زمین میں جا پڑنا۔الصَلِف: بے مزہ کھانا۔اناءٌ صَلِف: کم پانی پینے والا بھاری برتن۔سحابٌ صَلِف: بہت گرجنے، کم برسنے والا بادل۔ارضٌ صَلِفَة: کچھ نہ اگانے والی زمین، بنجر زمین۔الأصلَف جمع أصالِف: سخت بنجر زمین۔الصلفاء و الصِلفاء و الصَلَفاء و الصِلِفّاءَة جمع الصَلافِی: سخت بنجر زمین۔ طعامٌ صَلِيف: بے مزہ کھانا۔المُصلِف (فا): بیوی کی ناقدری کرنے والا۔
۳۔أصلَفَ: مشکل سے سانس لینا۔الصَلِف: بھاری برتن۔
۴۔الصَلَف واحد صَلَفَة: کھجور کے درخت کے گودے کے مخفی حصے۔الصَلِيف: گردن کا پہلو، کہتے ہیں۔أخذهُ بصليفه: اس نے وہ سب لے لیا۔
۵۔صَلْفَعَ: محتاج و مفلس ہونا۔۔۔ رأسهُ: کا سر مونڈنا۔

صَلِفَ - صَلَفًا و تَصَلَّفَ : ڈینگ مارنا، بڑ ہانکنا، شیخی بگھارنا، زبان درازی کرنا، اینٹھ کر چلنا، رعب جمانا۔ صَلَف : شیخی، لاف زنی، زبان درازی، ڈینگ، بڑ، گمان، تکبر، خود پسندی، غرور، اکڑ، اکڑفوں، ہیکڑی، نری لفاظی، محض عبارت آرائی، خود بینی۔ صَلِف جمع صُلَفاء : شیخی باز، لاف زن، ڈینگ مارنے والا، شان وشوکت دکھانے کا شوقین، زبان دراز، اٹھ کر چلنے والا، شیخی خورہ۔ تصلف بمعنی صَلَف۔ متصلف بمعنی صَلِف۔

صلق : ۱۔ صَلَقَ - صَلْقًا الرجلُ : مصیبت میں چلانا۔ ۔ ِ صَلْقًا نابَهُ : دانت پیسنا۔ أَصْلَقَ الرجلُ : مصیبت میں چلانا۔ ۔ انیابُ : دانت کا آواز دینا۔ تَصَلَّقَ المریضُ : درد سے لوٹ پوٹ ہونا۔ ت المرأةُ : عورت کا دردِ زہ میں مبتلا ہونا۔ اصْطَلَقَ البعیرُ بنابِه : اونٹ کا دانت پیسنا۔ الصَّلْق : (مص) زور کی آواز۔ المِصْلَق و المِصْلاق من الخطباء جمع مَصَالِق و مَصَالِيق : پر جوش مقرر، خوش بیان مقرر۔

۲۔ صَلَقَ - صَلْقًا هُ بالعصا : کو لاٹھی سے مارنا۔ ۔ ته الشمسُ : سورج کا کسی کو گرمی سے تکلیف پہنچانا۔

۳۔ الصُّلاقة : ایک جگہ پر زیادہ مدت ٹھہرا ہوا پانی۔ الصَّلَق جمع أَصْلاق جمع الجمع أَصالِيق : ہموار زمین۔ الصَّلِيق : چکنا۔ الصَّلِيقة جمع صَلائِق : چپاتی، پتلی روٹی، گوشت کا بھنا ہوا ٹکڑا۔ المَصَالِيق : بڑے بڑے پتھر، ہلکے پھلکے اونٹ۔

۴۔ صَلْقَعَ : محتاج و مفلس ہونا۔ ۔ رأسَهُ : کا سر مونڈنا۔ الصَّلْقَع : خالی کہتے ہیں: مکانٌ صَلْقَعٌ بَلْقَعٌ و صَلَنْقَعٌ بَلَنْقَعٌ : یعنی خالی جگہ۔

۵۔ صَلْقَعَ صوتَه : سخت آواز نکالنا۔ الصَّلَنْقَع : سخت تیز۔

صلم : ۱۔ صَلَمَ - ِ صَلْمًا و صَلَّمَ الشیءَ : چیز کو جڑ سے کاٹنا۔ ۔ هُ : (کے) کان اور ناک جڑ سے کاٹنا۔ اصْطَلَمَ هُ : کو جڑ سے اکھیڑنا کہتے ہیں۔ اصْطَلَمَهُمُ الدهرُ : زمانہ نے انہیں جڑ سے اکھاڑ دیا یعنی ان کا خاتمہ کردیا۔ رجلٌ أَصْلَمُ م صَلْماء جمع صُلْم الأذنين : وہ شخص جس کے کان ایسے کٹے ہوں کہ گویا پیدائشی ایسے ہیں۔ الصَّيْلَم : تلوار، مصیبت، سخت کام۔ وقعةٌ صَيْلَمَةٌ : جڑ سے اکھیڑ دینے والی جنگ۔ المُصَلَّم الأذنين : جس کے کان پیدائشی طور پر کٹے ہوں۔

۲۔ الصَّلَم و الصَّلَمة : (جیسے خَدَم و کَفَرَ) واحد صَالِم : مضبوط اور بہادر لوگ۔ الصُّلامَة و الصَّلامَة و الصِّلامَة : جمع صُلامات و صَلامات و صِلامات : لوگوں کی ایک جماعت، عمر، سخاوت اور بہادری میں برابر لوگ۔ الصَّيْلَم : ایک وقت کا کھانا

۳۔ صَلْمَعَ : محتاج و مفلس ہونا۔ ۔ الرأسَ : سر مونڈنا۔ ۔ الشیءَ : چیز کو جڑ سے اکھیڑنا، کو چکنا کرنا۔ صَلْمَعَةٌ هو صَلْمَعَةٌ قَلْمَعَةٌ : وہ اور اس کا باپ غیر مشہور ہیں

صلهب : ۱۔ اصْلَهَبَّ الشیءُ : دراز ہونا، لمبا ہونا۔ الصَّلْهَب : بڑا گھر۔ ۔ و المُصْلَهِبّ : لمبا مرد۔

۲۔ الصَّلْهَج : بڑی چٹان (ح) مضبوط اونٹنی۔

۳۔ اصْلَهَمَّ : سخت ہونا۔ الصِّلْهام : جری، بہادر (ح) شیر۔

صلا : ۱۔ صَلا - صَلْوًا فلانًا : کو پیٹھ کے درمیان مارنا۔ صَلِيَ تَصْلَى صَلًا و أَصْلَى اصلاءً ت الناقةُ : جننے کے قریب ہونے کی وجہ سے اونٹنی کے دُبر و دُم کے درمیان کے حصہ کا ڈھیلا ہونا۔ الصَّلا : (مص) جمع صَلَوات و أَصْلاء : انسان اور ہر چوپائے کی پیٹھ کا درمیانی حصہ۔

۲۔ صَلَّى صَلاةً : دعا کرنا، نماز پڑھنا۔ ۔ الله علیه : اللہ کا کسی کو برکت دینا، کی تعریف کرنا، دعا کرنا کہ اسے خوش نصیبی عطا فرمائے۔ الصَّلاة جمع صَلَوات او الصلٰوة : (واؤ سے) نماز، دعا، تسبیح من الله : اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت اور انکی تعریف۔ المُصَلَّى : نماز ادا کرنے کی جگہ، جنازہ گاہ۔

۳۔ صَلَّى تَصْلِيَةً الفرسُ : گھوڑ دوڑ میں گھوڑے کا دوسرے نمبر پر آنا۔ صفت مُصَلٍّ

صلی : ۱۔ صَلَى - ِ صَلْيًا اللحمَ : گوشت بھوننا۔ مَصْلِيّ : بھنا ہوا گوشت۔ ۔ فلانًا النارَ و فیها و علیها : کو آگ میں ڈالنا۔ صَلِيَ - صَلًى و صِلِيًّا و صُلِيًّا و صِلِيًّا النارَ و بها : آگ کی گرمی برداشت کرنا، یا آگ میں جلنا۔ ۔ الأمرَ و بالأمرِ : معاملہ کی شدت برداشت کرنا۔ صَلَّى العصا علی النار او بالنار : لاٹھی کو آگ میں تپا کر نرم کرنا اور سیدھا کرنا، شاعر کے اس قول میں "فما صَلَّى عَصَاكَ كمستديم : یعنی اس نے تمہاری حالت اس طرح ٹھیک نہیں کی جس طرح آپ کسی کام کو تندہی سے سرانجام دیتے ہیں۔ ۔ يَدَهُ : ہاتھ تاپنا۔ أَصْلَى يَدَهُ : ہاتھ تاپنا۔ هُ النارَ : کو آگ میں ڈالنا۔ تَصَلَّى تَصَلِّيًا النارَ و بالنار : آگ کی گرمی برداشت کرنا، آگ تاپنا۔ عصاه علی النار : لاٹھی کو آگ پر تپانا۔ اِصْطَلَى اصْطِلاءً بالنار : آگ تاپنا کہتے ہیں۔ فلانٌ لا يُصْطَلَى بنارِه : فلاں ایسا بہادر ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ الصِّلاء و الصَّلَى : آگ یا بڑے پیمانہ کی آگ، ایندھن۔

۲۔ صَلَّى - صَلْيًا الرجلَ : خوشامد و درآمد سے کسی کو کسی برائی کرنے پر مجبور کرنا، دھوکہ دینا۔ ۔ للصید : شکار کے لئے جال بچھانا۔ ۔ لَهُ الشرکَ : کے لئے جال بچھانا (عام زبان میں) ت الحیّةُ : سانپ کا اپنی گردن اٹھا کر کسی گزرنے والے کی گھات میں رہنا تا کہ اس پر جھپٹا مار سکے (عام زبان میں) صَلَّى البسينُ الفأرةَ : بلی کا چوہے کی گھات میں بیٹھنا (سریانی عام زبان میں) المِصْلاة و المِصْلَى جمع مَصَالٍ : شکار کرنے کا جال، پھندا کہتے ہیں: ان للشیطان فخاخًا و مَصَالِيَ : شیطان کے بہت سے جال اور پھندے ہیں۔

۳۔ الصَّلایَة و الصَّلاءَة جمع صُلِيٌّ و صِلِيٌّ : پیشانی، خوشبو کوٹنے کا بٹا، سِل (جس پر چیزیں کوٹی جاتی ہیں)۔

○ صَلَّى : نماز ادا کرنا، دعا کرنا، عبادت کرنا۔ صَلَّى بالناس : لوگوں کو نماز پڑھانا، نماز میں امامت کرنا۔ صَلَّى علی : کے حق میں دعائے خیر کرنا، (اللہ تعالیٰ کا) کسی کو خوش رکھنا۔ صلٰوة و صلاة : نماز، سفارش، شفاعت، سفارش کی نماز، برکت، دعائے خیر، اشیرباد، خدا کی رحمت، خدا کا لطف و کرم۔ صلاةُ التراویح : ماہ رمضان کے دوران راتوں کو ادا کی جانے والی نماز۔ صلاة الستار : گرجے میں شام کی نماز۔ مُصَلٍّ : نمازی، عبادت کرنے والا۔ صَلون : سیلون، بیٹھک، دیوان خانہ، کمرۂ استقبال۔ صَلَى - ِ صَلْيًا ہ : کو بھوننا۔ صَلِيَ - صَلًى و صُلِيًّا و صِلاءً ہ/ب : میں جلنا، کے شعلہ یا کی لپیٹ میں ڈالا جانا۔ صَلَّى ہ ب : کو سے یا پر گرم کرنا، تپانا۔ أَصْلَى ہ ہ : مندرجہ بالا معنی۔ أَصْلَى ہ ہ : (خصوصًا النار) کو کسی چیز یا خصوصًا آگ میں جلانا۔ اصلاه نارا من الغیرة : کو حسد، بدگمانی، غیرت یا محبت کے سخت ٹیسوں سے گزارنا۔ اصلاه نارا : کو آگ لگانا، پر فائر کرنا (عسکری اصطلاح میں) تَصَلَّى ب : اپنے آپ کو کسی چیز پر یا کے ذریعہ یا (بالنار) آگ پر گرم کرنا، یا آگ تاپنا۔ اصْطَلَى : بمعنی تَصَلَّى - لا يُصْطَلَى بنارِه : وہ نا قابل تسخیر ہے، اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ مُصْطَلًى : چولہا، انگیٹھی۔

صمّ : ۱۔ صَمَّ - ُ صَمًّا القارورةَ : شیشی کو بند کرنا۔ ۔ الجُرحَ : زخم پر لیپ لگا کر باندھنا، زخم کی مرہم پٹی کرنا۔ - صَمَمًا و صَمًّا : کا کان بند ہونا، اونچا

سننا، بہرا ہونا یا بالکل نہ سننا۔ صفت اَصَمّ م صَمّاء جمع صُمّ و صُمّان کہتے ہیں۔ صَمَّتِ الأُذُن: کان بند ہوگیا۔ صُمَّ صداہ (یعنی اس کی آواز بند ہوگئی) مراد وہ ہلاک ہوگیا، مرگیا۔ صَمَّمَ هُ: کو بہرا کرنا۔ أَصَمَّ: کا کان بند ہونا۔ ـ هُ: کو بہرا کرنا یا بہرا پانا۔ -- القارورةَ: شیشی بند کرنا۔ ـ دعاؤُهُ: ایسے لوگ پانا جو بہرے ہوں، جو نہ تو اسکی سرزنش سنتے ہوں نہ جواب ہی دیتے ہوں۔ ـ اللّٰهُ صدی فلان: اللہ اسے ہلاک کرے۔ تصَامّ عن الحديث: بہرا بننا۔ الصِمّ: سخت مصیبت۔ الصِمَّة جمع صِمَم: صم کا اسم نوع۔ شیشی وغیرہ کا ڈاٹ۔ الصَمَم (مص) بہرا پن۔ صَمَامِ کقَطَامِ: سخت مصیبت کا اسم علم ہے کہتے ہیں۔ صَمِّي صَمَامِ: یعنی اے مصیبت اور زیادہ ہو جا نیز کہتے ہیں۔ صَمَامِ صَمَامِ: یعنی خاموش رہ کر بہرے بن جاؤ۔ الصِمَام جمع أَصِمَّة والصِمَامَة: شیشی کا ڈاٹ۔ الأَصَمّ: ٹھوس، مضبوط کہتے ہیں۔ حجرٌ أَصَمّ و صخرةٌ صَمّاء: ٹھوس، پتھر، چٹان۔ رمحٌ أصمّ: مضبوط نیزہ۔ رجلٌ اصَمّ: وہ مرد جو اپنی خواہش کا بندہ ہو اور اس سے کسی بہتری کی امید نہ ہو۔ دھرٌ اصم: بہرا زمانہ جو کوئی شکایت نہ سنتا ہو۔ الشهر الأصم: ماہ رجب (جس میں جنگ کی حرکت اور اسلحہ کی جھنکار سنائی نہیں دیتی تھی اور نہ ہی کسی مدد کے لئے پکارنے والی کی کوئی آواز) (مُولّدین: (زمانہ حال کے مصنفین) کے نزدیک) دسمبر کا مہینہ کیونکہ بارشوں کی کثرت اور سردی کی وجہ سے اس میں لوگ پرسکون رہتے ہیں۔ الصَمّاء جمع صُمّ: الأصمّ کا مونث، سخت زمین، بڑی مصیبت۔ الصَمّان و الصَمّانة: ہر سخت پتھریلی زمین۔

۲- صَمَّ ـُ صَمًّا عزيمتَهُ: پکا ارادہ کرنا۔ صَمَّمَ على الامرِ وفيه: اپنی رائے پر چلنا اور منع کرنے والے کی بات پر کان نہ دھرتا گویا بہرا ہو۔ ـ السيفُ: تلوار کا ہڈی سے پار ہو جانا اور اسے کاٹ ڈالنا۔ الصِمّ (ح) شیر۔ الصِمَّة جمع صِمَم: بہادر (ح) شیر۔ رجلٌ صِمَّمٌ: پکے ارادہ والا مرد۔ المُصَمِّم (فا): ثابت قدم، کام میں نہ رکنے والا۔ السيف المُصَمِّم: قاطع تلوار۔ التصميم جمع تَصَامِيم: پلان، ڈیزائن، سکیچ، پلاننگ، منصوبہ بندی، ڈیزائننگ، ڈیزائن، کسی منصوبہ کا پختہ تعاقب۔

۳- صَمَّ ـُ صَمًّا الرجُلَ بحجرٍ: کو پتھر مارنا۔

۴- صَمَّمَ الشيءَ: کسی چیز کو دانتوں سے کاٹنا۔ الصِمَّة (ح): نر سانپ۔

۵- صَمَّمَ هُ الحديثَ: کو کلام یاد کرانا۔

۶- الصِمَّة جمع صِمَم (ح) مادہ۔ سیھی۔ الصميم: عضو کو قائم رکھنے والی ہڈی۔ ـ من كل شيءٍ: ہر چیز کا خالص حصہ (واحد اور جمع دونوں کے لئے مستعمل ہے) آپ کہتے ہیں: رجلٌ صميم و رجالٌ صَمِيم م صَمِيمَة: کہتے ہیں۔ هو من صميمِ القوم: یعنی وہ قوم کا اصل اور خالص ہے۔ من البرد او الحرّ: سخت سردی یا گرمی کہتے ہیں۔ ذهب في صميم الحرّ: وہ سخت گرمی میں چلا گیا۔

۷- صَمْصَمَ صَمْصَمَةً في الامر او السير: ثابت قدمی سے کام جاری رکھنا، یا چلتے رہنا۔ الصَمْصَام والصَمْصَامَةُ: نہ مڑنے والی تلوار۔ الصِمْصِم والصُمَاصِم والصُمَاصِمة من الخيل: چلنے میں ثابت قدم گھوڑا۔

۸- صَمْصَمَ ت القنفذةُ: سیہی کا آواز نکالنا۔

۹- صَمْصَمَ (في اصطلاح العامة): کنجوس ہونا، پس انداز کرنا کہتے ہیں۔ رجُلٌ يُصَمْصِمُ ماله و رجُلٌ صِمْصِم: کنجوس جو مال بچا کر رکھے۔

۱۰- الصِمْصِم: چھوٹا، موٹا۔ الصَمْصَمَة والصِمْصِمَة جمع صِمْصِم و صَمَاصِم: قوم کا وسط لوگوں کی جماعت

صَمَّ ـَ صَمًّا و صَمَمًا: بہرا ہونا یا ہو جانا۔ صَمَّ ـُ صَمًّا ه: کسی چیز، بوتل وغیرہ کو بند کرنا، ڈاٹ لگانا۔ صَمَّمَ هُ: کو بہرا کر دینا۔ على: کا پختہ ارادہ کرنا، کا فیصلہ کرنا، پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا۔ ـــ ه: (کسی چیز) کا خاکہ یا نقشہ یا ڈیزائن تیار کرنا کا منصوبہ بنانا، پروگرام بنانا، کی منصوبہ سازی کرنا۔ -- ه ل ہ کے لئے کسی چیز کا خاکہ بنانا، تیار کرنا، یا نقشہ بنانا یا تیار کرنا، ڈیزائن بنانا یا تیار کرنا۔ أَصَمَّ: بہرا ہونا یا ہو جانا۔ هُ: کو بہرا کر دینا۔ ه/عن: کو سے بہرا بنا دینا۔ تَصَامَّ عن: کو نہ سننا، پر کان نہ دھرنا۔ صِمَّة: پلگ (plug)، کارک (Cork) سٹاپر (Stoppr) صَمَم: بہرا پن۔ كان في صمم عن: کے متعلق پنبہ بگوش ہونا۔ صِمَام جمع صِمَامات بمعنی صِمَّة (نیز) والو۔ (ریڈیو) ٹیوب۔ صِمامُ الأَمَان (الأمن): سیفٹی والو۔ صِمامُ التقويم: ریکٹی فائر ٹیوب۔ رفع الصِمَام عن: کو اپنی رائے پر چلنے دینا، کو بے لگام کرنا (جیسے احساس کو)۔ صميم: بالکل اندرونی، گہرا، عمیق، دلی، قلبی، دل، گودا، مغز، جوہر، اصل، روح، ست، لب لباب، سب سے اہم بات، سچا، اصلی، حقیقی، مخلص۔ من صميم القلب: دل کی گہرائی سے، پورے اخلاص سے، انتہائی خلوص کے ساتھ۔ في صميم: کے درمیان میں، میں، کے دوران۔ ضَرَبَه في الصميم: کو از حد متاثر کرنا، کے دل پر گہرا اثر کرنا۔ صَمِيمي: دلی، قلبی، پر تپاک، پرجوش، گرمجوشانہ۔ اصم اصلخ: بالکل بہرا۔ جذر اصم: جذر اصم، (ریاضی) آلة صماء: رضا کارانہ آلہ کار۔ تصميم على: کا پختہ عزم، ارادہ، فیصلہ، باعزم عمل، کسی منصوبہ کی پختہ جستجو، منصوبہ بندی، منصوبہ بنانا، ڈیزائن، ڈیزائننگ (جمع تصميمات و تصاميم) پلان، ڈیزائن، سکیچ۔ من تصميم فلان: فلاں کا ڈیزائن کردہ۔ مُصَمِّم على: کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کرنے والا۔ مُصَمِّم الازياء: فیشن کا خالق، ڈیزائنر (ملبوسات کا)

صما: صَمَأَ ـَ صَمْأً: طلوع کرنا۔ ـ فلانًا على الأمر: کو پر اکسانا، برانگیختہ کرنا۔

صمت ۱- صَمَتَ ـُ صَمْتًا و صُمُوتًا و صُمَاتًا: خاموش رہنا۔ صَمَّتَ: خاموش رہنا۔ ـــ هُ: کو خاموش کرنا۔ ـت المرأةُ ولدها: عورت کا اپنے بچے کو کچھ کھلا کر بہلانا۔ أَصْمَتَ: خاموش رہنا۔ هُ: کو خاموش کرنا۔ ـ العليلُ: بیمار کی زبان کا بند ہونا۔ الصُمَات: (مص) خاموشی۔ کہتے ہیں: رماه بِصُمَاتِه و سُكَاتِه: اس نے اس کو چپ کرا دیا۔ الصِمْتَة والصُمْتَة: وہ کھانا وغیرہ جس سے بچے چپ کرایا جائے اور بہلایا جائے۔ الصامِت من المال: سونا چاندی۔ (المال الناطق: حیوان) کہتے ہیں۔ ماله ناطِق ولا صامِت یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ الصِمِّيت والصُمُوت: کم گو، بہت چپ رہنے والا۔ ضَرْبَةٌ صَمُوت اندوںی ضرب، مار۔ جاريةٌ صَمُوتُ الخلخال: موٹی ٹانگوں والی لڑکی جس کی پازیب کی آواز سنائی نہ دے۔ المُصْمِت (فا) کہتے ہیں: انه يشكو الي غير مُصْمِت: وہ اس سے شکایت کرتا ہے جو اس کی شکایت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔

۲- الصُمات: پیاس کی سرعت، قصد، ارادہ کہتے ہیں: هو على صُمات الأمر او بِصُمَاتِه: وہ کام کرنے کو تیار ہے۔ بات من القوم على صُمات: وہ لوگوں سے قریب ہوا۔ الصَمُوت: بھاری زرہ، شہد سے بھرا ہوا چھتہ۔ الصامِت (فا): گاڑھا دودھ۔ المُصْمَت: (مفع) ٹھوس۔ بابٌ مُصْمَتٌ: بند دروازہ جس کے بند ہونے کی جگہ کا پتہ نہ ہو۔ حائطٌ

مُصْمَتٌ: وہ دیوار جس میں کوئی دراڑ نہ ہو۔ فرسٌ مُصْمَتٌ: یک رنگا گھوڑا۔ اناءٌ مُصْمَتٌ: وہ برتن جس پر چاندی کی قلعی نہ ہو۔ اَلْفٌ مُصْمَت و مُصَمَّت: پورا ایک ہزار۔

○ صَمَتَ ۔ صَمْتًا و صُمُوتًا: خاموش ہونا، کم گویا کم سخن ہونا، اپنی زبان پر قابو رکھنا، خاموش ہونا یا ہو جانا، معاملہ کا دب جانا۔ صَمَّتَ ہُ و اَصْمَتَ ہُ: کو خاموش کرنا۔ صُمْت: خاموشی۔ فی صمت: خاموشی سے، چپ چاپ۔ صَمُوت: خاموشی صامت کی جمع خاموش رہنے والے۔ صُمُوت: خاموش، کم گو، کم سخن۔ صَامِت جمع صُمُوت: خاموش۔ سینما صامتة: خاموش فلم (Silent film) مُصْمَت: یکساں (رنگ) سادہ، بے درو دریچہ (دیوار) بناوٹ میں یکساں، ایک ہی چیز سے بنا ہوا، بڑا ٹھوس، جو کھوکھلا نہ ہو، کسا ہوا۔

صمح: ۱۔ صَمَحَ ۔ صَمْحًا ہُ الحرُّ: گرمی کا کے دماغ کو پگھلا دینا۔ الصُّمَاح: پگھلی ہوئی چربی جو پاؤں کی پھٹن پر رکھی جائے۔ داغ دینا۔ یومٌ صَامِحٌ و صَمُوحٌ: سخت گرمی کا دن۔

۲۔ صَمَحَ ۔ صَمْحًا ہُ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔ الأَصْمَح: شجاعت کی وجہ سے بہادروں کے سروں پر ضرب لگانے والا۔ حافِر صَمُوحٌ: سم، کھر جو سخت آواز دے۔

۳۔ صَمَحَ ۔ صَمْحًا فلانًا: سختی سے سوال کرنا۔ الصِّمْحَا و الصِّمْحَاءَ ۃ: سخت زمین۔

۴۔ الصُّمَاح: بدبودار پسینہ۔

صمخ: ۱۔ صَمَخَ ۔ صَمْخًا ہُ: کے کان کے سوراخ پر مارنا۔ انفہٗ: کا ناک توڑنا۔ الصِّمْخ ضرب جس سے چہرے پر نشان پڑ جائے۔ الصِّمَاخ جمع صُمُخ و اَصْمِخَۃ و الاَصْمُوخ: کان کا سوراخ کہتے ہیں: ضرب اللّٰہ علی صِمَاخِہ اللہ اس کو سلائے۔ کُلُّ اُذُنٍ وَلُوْدٌ و کلُّ صِمَاخٍ بَیُوضٌ: یعنی ہر لمبے کان والا انسان کی طرح جنتا ہے اور ہر چھوٹے کان والا پرندوں کی طرح انڈے دیتا ہے۔

۲۔ الصِّمْخ: ایک منجمد چیز جو بکری کے تھنوں میں بچہ دینے کے بعد ہوتی ہے اور اس کے نکلنے کے بعد دودھ صاف ہو جاتا ہے۔ عام لوگ اسے شمندور کے نام سے جانتے ہیں۔ الصُّمَاخ جمع صُمُخ: کم پانی والا کنواں۔

۳۔ اِصْمَخَدَّ: غصہ سے پھولنا۔

صمد: ۱۔ صَمَدَ ۔ صَمْدًا و صَمَّدَ فلانًا و لہ و الیہ: کا قصد کرنا کہتے ہیں۔ صَمَدَ صَمْدَ ہذا الامرَ: اس نے اس کام پر اعتماد کیا۔ تَصَمَّدَلہ بالعصاء: کو لاٹھی سے مارنا۔ الصَّمَد: سردار جس کی طرف مہمات میں رجوع کیا جائے، اور اس کے بغیر کوئی کام پورے نہ ہوں، ہمیشہ رہنے والا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک نام۔ الصَّمْدَۃ: صَمَدَ کا اسم مرۃ۔ الصَّامد: چلی جانے والی چیز کا باقی حصہ (عام زبان میں) المُصْمَد و المَصْمُود: جس کا قصد کیا جائے۔

۲۔ صَمَدَ ۔ صَمْدًا ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ت الشمسُ وجہَہٗ: آفتاب کا چہرہ کو جھلس دینا۔ صَمَّدَہٗ بالعصاء: کو لاٹھی سے مارنا۔ صَامَدَ صِمَادًا و مُصَامَدَۃً ہٗ: سے لڑنا تلوار بازی کرنا۔

۳۔ صَمَدَ ۔ صَمْدًا القارورۃَ: شیشی پر ڈاٹ لگانا۔ صَمَّدَ الرجلُ راسَہٗ: سر پر رومال باندھنا۔ الصِّمَاد: شیشی کا ڈاٹ۔ و الصِّمادۃ: پگڑی کے علاوہ سر پر لپیٹنے کا کپڑا یا رومال۔ الصَّمْدَۃ (فی اصطلاح المسیحین): وہ رومال جو پادری مقدس قربانی کے برتنوں کے نیچے رکھتے ہیں۔

۴۔ صَمَدَ ۔ صَمْدًا تِ الماشطۃُ العروسَ (فی اصطلاح العامۃ): خادمہ کا دلہن کو اونچی چوکی پر بٹھانا، اسی طرح صَمَدَ الکاہن الصورۃ و القربانَ: پادری کا تصویر اور قربانی کو اونچی جگہ رکھنا (سریانی) اَصْمَدَ الیہ الامرَ: معاملہ کے سپرد کرنا۔ الصَّمَد (مص) جمع اَصْمَاد و صِمَاد: اونچی جگہ۔ الصَّمَد: بلند۔ الصَّمْدَۃ و الصُّمْدَۃ: بلند مضبوط گڑی ہوئی چٹان۔

۵۔ صَمَّدَ اللدراہمَ: تھوڑا تھوڑا کر کے درہم جمع کرنا اور محفوظ کر لینا (عام زبان میں) الصامد: چیزیں جمع کرنے والا (عام زبان میں)

۶۔ الصَّمَدُ: ٹھوس، لڑائی میں بھوک پیاس برداشت کرنے والا۔

۷۔ صَمْدَحَ الیومُ: دن کا بہت گرم ہونا۔ الصَّیْدَح: گرم دن۔

۸۔ الصُّمادِح: بہت سخت چیز، ہر چیز کا خالص حصہ، واضح راستہ (ح) شیر۔ الصُّمادِحی: ہر چیز کا خالص حصہ۔ و الصَّمَیْدَح بہت سخت۔

○ صَمَدَ ۔ صُمُودًا ہ / ھ / ل / الی: کے پاس کی طرف جانا۔ ھ / ل / الی کی طرف توجہ کرنا، کو تن دہی سے کرنا صُمُودًا فی وجہہ اول: کے مقابلہ میں آنا، کا مقابلہ کرنا، کی مزاحمت کرنا [illegible] کرنا، ڈاٹ لگانا وغیرہ۔ صَمَّدَ ہ / ھ: کے پاس جانا۔ ھ: کو بند کرنا، ڈاٹ لگانا (روپیہ) بچانا۔ صَامَدَہ: سے لڑنا، سے ہاتھاپائی کرنا۔ صَمَد: خدا تعالیٰ ابدی، ازلی اور ابدی، دائمی، امٹ، خدائے لم یزل۔ صَمَدانی: ابدی، ازلی، لازوال، دائمی۔ صِمَادۃ: سر پر رکھنے کا رومال وغیرہ۔

○ صَمْصَمَ فی: پر جمار ہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا۔

صمر: ۱۔ صَمَرَ ۔ صَمْرًا و صُمُورًا الماءُ: پست زمین سے ہموار زمین پر پانی کا آہستہ آہستہ بہنا۔ الصِّمْر: آہستہ آہستہ چلنے والے پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔

۲۔ صَمَرَ ۔ صَمْرًا و صُمُورًا: بخیل ہونا۔ صَمَّرَ و اَصْمَرَ الرجُلُ: بخیل ہونا۔ ــ المتاعَ: سامان جمع کرنا۔ الصَّامِر (فا) جمع صامِرون: بخیل۔

۳۔ صَمَرَ ۔ صَمْرًا و صَمِرَ ۔ صَمَرًا اللبنُ: دودھ کا ترش ہونا۔ اَصْمَرَ اللبنُ: دودھ کا بہت ترش ہونا۔ الصَّمِرۃ و الصامُورۃ: ترش دودھ، جس میں مٹھاس نہ ہو۔

۴۔ صَمَّرَ و اَصْمَرَ الرجُلُ: شام کے وقت آنا۔ الصُّمَیْر: شام کا وقت۔

۵۔ الصَّمْر: تازہ مشک کی خوشبو۔ ــ و الصَّمَر: بدبو۔ الصُّمر جمع اَصْمار: کسی چیز کا کنارہ کہتے ہیں۔ ملأ الکاسَ الی اَصْمارِھا او اَصبارِھا: یعنی اس نے پیالہ کو اس کے کناروں تک بھر دیا۔ الصَّمِر: بدبودار کہتے ہیں۔ یدی من السمك صَمِرۃ: یعنی میرا ہاتھ مچھلی کی وجہ سے بدبودار ہے۔ الصَّمَیر: پتلا خشک آدمی جس سے پسینہ کی بدبو آتی ہو۔

صمع: ۱۔ صَمَعَ ۔ صَمْعًا ہُ بالعصا او السیف: کو لاٹھی یا تلوار سے مارنا۔

۲۔ صَمَعَ ۔ صَمْعًا الظبیُ: ہرنی کا زمین میں چلا جانا۔ صَمِعَ ۔ صَمَعًا: لاپرواہی سے گذر جانا۔ صَمَّعَ علی رأیہ: اپنی رائے پر ڈٹا رہنا۔ انْصَمَعَ فی غضبہ: اپنے غصہ پر قائم رہنا۔ الأَصْمَع جمع صُمْعان: تیز کاٹنے والی تلوار، قلب ذکی، اوپر چڑھنے والا۔ الأَصْمَعان: ہشیار دل اور پکی رائے۔ الصَّمِع تیز فہم، بہادر، فولادی دل والا۔

○ صومعۃ جمع صوامع: راہب کا حجرہ، غلہ کا گودام، منار، منارہ۔

۳۔ صَمِعَ ۔ صَمَعًا فی الکلام: کلام میں غلطی کرنا۔

۴۔ صَمِعَ ۔ صَمَعَت اُذُنُہٗ: کانوں کا چھوٹے ہونے

کے سبب سر سے چمٹا ہونا، چھوٹے اور سر سے چمٹے ہوئے کان کو صَمْعاء اور ایسے کان والے کو۔ اَصمع کہتے ہیں۔ الأَصْمَع م صَمْعاء جمع صُمْع چھوٹے کان والا، لطیف پر، وہ پودا جس کا پھل ابھی غلاف سے نہ نکلا ہو۔

صمغ: ا۔ صَمَّغَ الشیءَ: میں گوند ڈالنا، کو گوند لگانا (عام زبان میں) أَصْمَغَ ت الشجرۃ: درخت سے گوند نکلنا۔ الشدق: باچھ کا زیادہ تھوک اور جھاگ والی ہونا۔ استَصْمَغَ الشجرۃ: درخت سے گوند نکالنا۔ الصَّمْغ و الصَّمَغ: (واحد صَمْغَة) و (صَمَغَة) جمع صُمُوغ: گوند۔ الصَّمْغُ العربی صمغ عربی، ببول یا کیکر کی گوند، عام لوگ اسے صِمغ کہتے ہیں۔ الصِمغان و الصِمْغتان و الصامِغان والصماغان: باچھیں۔ الصَمَغ و الصِمَغَة: ولادت کے بعد تھن کے اندر پائی جانے والی ایک منجمد چیز۔ الصُمْغان: وہ شخص جس کے کان، ناک، منہ آنکھ سے گوند کے مانند ریزش نکلے۔

۲۔ استصمغ فلانٌ: کو ناسور نکلنا، کو زخم ہونا۔ (الصَمْغة): ناسور۔

⭘ صَمَغ ہ: کو گوند لگانا۔ ۔ہ: کو لئی سے چپکانا، یا جوڑنا۔ اَصْمَغَ: (درخت کا) گوند نکلنا۔ صمغ جمع صُمُوغ: گوند، گندا بروزہ، بروزہ۔ صمغ اللك: چپڑا لاکھ، چپڑا۔ صمغ مَرِن: ربڑ۔ شجر الصمغ: ربڑ کا درخت۔ صَمْغِی: چیپ دار، گوند جیسا چپچپا۔

صمق: ا۔ أَصْمَقَ الباب: دروازہ بند کرنا۔ اللبنُ او الماءُ: دودھ یا پانی کا مزہ بدل جانا، خراب ہونا۔ ۔۔ الرجلُ: مرد کا خبیث ہونا۔ الصَمَقَة: خراب دودھ

۲۔ صَمَقَرَ اللبنُ: دودھ کی کھٹاس کا تیز ہونا۔ ۔ت الشمسُ: سورج کا بہت گرم ہونا۔ صملك: اِصْمَأَكَّ الرجلُ: غضب ناک ہونا۔ ۔۔ اللبنُ: دودھ کا جم کر پنیر جیسا ہو جانا۔ ۔۔ت الأرض: زمین کا بارش سے تر ہونا۔ الجرحُ: زخم کا پھولنا۔ الصَمَكُوك والصَمَكِيك: جاہل، برائی کی طرف جلدی کرنے والا، قوی، مضبوط، سخت دل ظالم، لیس دار چیز۔

صمل: ا۔ صَمَلَ ۔ صُمُلاً و صُمُولاً الشیءُ: سخت ہونا، خشک ہونا۔ أَصْمَلَهُ الصیامُ: روزوں کا کسی کو لاغر کر دینا۔ اِصْمَأَلَّ: سخت ہونا۔ ۔۔ النباتُ: نباتات کا گھنا ہونا۔ الصُمُلّ: مضبوط جسم کا۔ الصامِل والصَمِیل: خشک، سوکھا ہوا۔

۲۔ صمل ۔ صُمُلاً و صُمُولاً الرجلُ عن الطعام کھانے سے رک جانا۔

۳۔ صَمَلَ ۔ صَمْلاً و صُمُولاً ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔

۴۔ المُصْمَئِلّ: غصہ سے پھولا ہوا۔ المُصْمَئِلَّة: مصیبت۔

⭘ صَمَل ۔ صَمْلاً: سخت ہونا، باقی اور جاری رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، قائم رہنا۔ صَمْل: سختی، لچک نہ ہونا۔ صَمُولَة جمع صَوامِل و صامُولة جمع صوامیل: ڈھبری، رِپٹ۔

صمی: ا۔ صَمَی ۔ صَمَیاناً الرجلُ: پلٹنا۔

۲۔ صَمَی ۔ صَمَیاناً الرجلُ: کودنا، جلدی کرنا۔ ۔۔ صَمْیاً الصیدُ: شکار کا نظروں کے سامنے مر جانا کہتے ہیں ما اَصْمَاكَ علیه: تمہیں کس چیز نے اس پر اکسایا۔ أَصْمَی اِصْمَاءً الرجلُ: جلدی کرنا۔ ۔۔ الصیدَ: شکار کو تیر مار کر قتل کر دینا اور اس کا وہیں ٹھنڈا ہو جانا۔ ۔۔ الفرسُ علی لجامه: گھوڑے کا لگام کو چبانا اور چلنا۔ اِنْصَمَی اِنْصِمَاءً علیه: پر گرنا۔ ۔۔ الطائرُ: پرندہ کا ٹوٹ پڑنا۔ الصَمَیان: (مص) جمع صِمْیان: سچا اور، چاہو احملہ کرنے والا بہادر شخص۔ رجلٌ صَمَیانٌ: لوگوں پر جھپٹنے والا اور ایذا دینے والا آدمی۔

۳۔ صَمَی ۔ صَمْیاً الأمرُ فلاناً: کسی پر آپڑنا۔ أَصْمَی اِصْمَاءً منیّتَهُ: موت سے دوچار ہونا۔

⭘ صِملاخ جمع صَمالِخ: کان کا میل۔ أصماهُ: کو کاری ضرب لگانا۔ ۔۔ ہ/ ہ: کو مہلک ضرب لگانا۔ رَمَی فأَصْمَی: کو تیر، گولی وغیرہ مار کر موقع پر ہلاک کر دینا۔

صنّ: ا۔ أَصَنَّ: گندہ بغل ہونا۔ ۔۔ الماءُ: پانی کا خراب ہونا۔ ۔۔ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ الصِنّ: پشم پر لگا ہوا پیشاب جو بہت سڑتا ہے۔ الصِنَّة: پیشاب کی بدبو (عام زبان میں) الصِنة: گندہ بغلی، بدبو۔ الصُنان جمع أَصِنَّة: گندہ بغلی، بدبو۔

۲۔ أَصَنَّ: تکبر سے ناک چڑھانا۔ ۔۔ الرجلُ: غصہ سے بھر جانا۔ علی الامر: پر اصرار کرنا۔

۳۔ أَصَنَّ الرجلُ: خاموش ہونا۔

۴۔ الصَنّ جمع صِنان: روٹیاں رکھنے کی ڈھکنے دار ٹوکری۔ ۔۔ الصِنّ: سردی کے آخری سات دنوں کی ابتداء۔ الصِنان: بہادر۔ الأَصَنّ: بے پروا بننے والا۔

⭘ صَنّ: ٹوکری۔ صِنَّة: بغل سے خارج ہونے والی بو۔

صنب: ا۔ الصِناب (ط): (یونانی لفظ) ایک قسم کا سالن جو رائی اور تیل سے تیار کیا جاتا ہے۔ ۔۔ والصِنابة: لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔ الصِنابِیّ: سفیدی مائل بھورے رنگ والا۔

۲۔ صَنْبَرَ صَنْبَرَتِ النخلةُ: درخت خرما کا کم پھل اور پتلے تنے والا ہونا۔ الصُنْبُر: پتلی کمزور چیز۔ الصُنْبُور جمع صَنابِر: کمزور، ذلیل لاوارث آدمی۔ و الصُنْبُورَة جمع صَنابِیر: باریک تنے اور کم پھل والا کھجور کا درخت وہ کھجور کا درخت جو کسی دوسرے کھجور کے درخت کی جڑ سے بغیر بوئے پھوٹ نکلا ہو۔

۳۔ الصِنَّبْر جمع صَنابِر: سرد ہوا، گرم ہوا، سردی کے آخری سات دنوں میں دوسرا دن کہتے ہیں۔ لیلةٌ صِنَّبْرٌ و صِنَبْرٌ: سخت سردی یا گرمی والی رات۔ صنابر الشتاء: جاڑے کی شدت۔ الصُنْبُور جمع صَنابِیر: کینہ، چھوٹا بچہ، مصیبت، سرد ہوا، گرم ہوا (ضد) حوض میں پانی نکلنے کی نالی۔ الصَنَوْبَر: چیڑ کا درخت۔ الصَنَوْبَرِی: صنوبر کے پھل کے مشابہ گول لمبا یا مخروطی۔ الصَنَوْبَرِیّات: (ن) نباتاتی نوع جن میں صنوبر (چیڑ) سرو وغیرہ کے درخت شامل ہیں۔

۴۔ صَنْبَعَ البخیلُ: سوال کے وقت بخیل کا منقبض ہونا۔

صنت: أَصْنَتَ الشیءَ: کو محکم کرنا، مضبوط کرنا۔ الصُنُّوت جمع صَنانِیت: شیشی کا ڈھکنا۔

صنج: ا۔ صَنَجَ ۔ صُنُوجاً ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ صَنَّجَ تَصْنِیجاً به: کو پچھاڑنا۔ عوام کہتے ہیں: صَنَّجَتْ رقبتُهُ: کی گردن کے پٹھے اکڑ گئے۔ صحیح شَنَّجَتْ ہے۔ الصَنْج جمع صُنُوج: (مو) جھانجھ، مجیرا، چنگ۔ الصَنّاج و الصَنّاجَة: جھانجھ بجانے والا۔ صَنّاجَةُ الجیش: فوجی طبل۔

۲۔ صَنَجَ ۔ صُنُوجاً الناسَ: لوگوں میں سے ہر ایک کو اسکی اصل کی طرف موڑنا۔ صَنْج کہتے ہیں: ما ادری ایّ صنجٍ ھو: میں نہیں جانتا وہ کس قسم کا آدمی ہے۔

۳۔ لیلة قمراء صَنّاجَةٌ: روشن، چاندنی رات۔

⭘ صِنْجَة و سِنْجَة: نگین۔

صند: ا۔ الصِنْدِید جمع صنادید: سردار، بہادر۔ ۔۔ من الریح او البرد: تند ہوا یا سخت سردی کہتے ہیں: یوم حامی الصِندید او الصَنادِیر: سخت گرم دن۔ من الغیث: موٹی موٹی بوندوں کی بارش۔ الضادید: لشکر کی جماعت۔ ۔۔ مصیبتیں۔

⭘ صِنْدِید جمع صنادید: رہنما، مشہور، ممتاز، نمایاں،

بہادر، دلیر۔

۲۔صَندَقَ البضاعةَ (ت): سامان صندوق میں رکھنا۔ الصُندُوق جمع صَنادِیق: صندوق الصُندُوقة: چھوٹا صندوق۔

۳۔الصَندَلَ: (ن) ایک خوشبودار لکڑی کا درخت، صندل۔ والصُنادِل: بڑے سروالا۔ الصَندلانی جمع صَنادِلة: عطار۔

○ صُندُوق و صَندُوق جمع صَنادیق: کریٹ، صندوق، پیٹی، لکڑی کا صندوق، ٹرنک بکس، بکسا، سوٹ کیس، ڈبہ، دکان میں روپیہ رکھنے کی غلک، تختہ کے نیچے کی غلک، الماری، کوفر، ادائیگیوں کا دفتر، خزاچی کا دفتر، خازن کا دفتر، کوئی عوامی ادارہ جہاں روپیہ جمع کرایا جائے یا کسی مقصد کے لئے ادا کیا جائے جیسے بیماری کا فنڈ، صحت کا بیمہ وغیرہ صندوق البرید: پوسٹ بکس صندوق المکاتیب: میل بکس۔ صندوقُ النَقدِ الدُولیّ: بین الاقوامی مالیاتی ادارہ یعنی International Monetaryy Fund جس کا مخفف IMF ہے صندوق التوفیر: سیونگز بینک ابو صندوق: کیڑا امین الصندوق: خزانچی، خازن دفتر الصندوق: کیش بک، روکڑ، بہی صَندَل: صندل، چندن، سینڈل، چپل جمع صنادل: بجرا، نواڑا۔

صنر: الصِنارو الصِنّار: (واحد صِنارة صِنّارہ (ن): چنار کا درخت (فارسی لفظ) الصِنّارة جمع صَنانیر: تکلے کے سرے پر مڑا ہوا لوہا صِنّارَةُ الصیّاد: مچھلی پکڑنے کا کانٹا، بنسی کہتے ہیں رجُلٌ صِنّارَةٌ و صِنّارَة: بدخلق آدمی (اسکی جمع صنایر آتی ہے) الصِنور: بخیل، بدخلق۔

○ صِنّارَة جمع صَنانیر: ہک، آنکڑا، کانٹا، مچھلی پکڑنے کا آلہ صُنبُور جمع صَنابیر: (پانی کی) ٹونٹی۔

صنع: ا صَنَعَ ۔صَنعًا و صُنعًا الشیءَ: کو بنانا به صَنیعًا قبیحًا: کے ساتھ برائی کرنا صَنَّعَ الشیءَ: اچھی کاریگری سے چیز کو آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا اَصنَعَ الرجُلُ: سیکھنا، مہارت سے کوئی کام سرانجام دینا تَصَنَّعَ: بناوٹی مزین ہونا، بناوٹ کرنا تَصَنَّعت المرأةُ: عورت کا پاؤڈر، کریمیں وغیرہ استعمال کرکے بناؤ سنگار کرنا اصطنع شیئًا: کسی چیز کے بنانے یا تیار کرنے کا حکم دینا اِستَصنَعَهُ الشیءَ: کو کے بنانے کے لئے کہنا الصُنع (مص) کام۔ رجُلٌ صُنعُ الیدین جمع رجال صَنعُون: اچھا

ہوا، درزی، کپڑا، پگڑی، حوض، قلعہ، گوشت بھوننے کی سیخ۔ رجَلٌ صِنعُ الیدین جمع رجال صِنعُون: ماہر کاریگر اور دستکار۔ الصَنعَة: اسم مرة۔ الصَنعَة: ہنر، کاریگری۔ الصَناع: پانی کو وقتی طور پر روکنے کے لئے نالی میں لگائی ہوئی لکڑی۔ رجُلٌ صَناع الیدین جمع صُنُع و صَنَعُ الیدین: کاریگری میں ماہر، اسی طرح کہتے ہیں۔ امرأةٌ صَناعُ الیدین و امرأتان صَناعان و نِسوَةٌ صُنُع: (مذکر کی طرح) دستکاری میں ماہر ایک، دو یا زائد عورتیں، شاعر و بلیغ کے لئے کہتے ہیں۔ هو صَنَعُ اللسان ولهُ لسانٌ صَنِعٌ۔ الصِناعة والصَناعة جمع صِناعات و صَنائِع: ہنر، پیشہ، محنت، کاریگری، کیفیت علم سے تعلق رکھنے والا علم جیسے منطق کہا جاتا ہے کہ صَناعَة: محسوسات کے لئے ہے اور صِناعة: معانی کے لئے۔ الصِناعِیّ: صنعتی، مصنوعی، اس کے مقابل طبیعی ہے۔ الصَناعة: پانی کو روکنے کے لئے نالی میں لگانے کی لکڑی۔ الصَنیع جمع صُنُع: بنا ہوا، صیقل شدہ تلوار، تیر، عمدہ صاف کپڑا کہتے ہیں۔ رجُلٌ صنیعُ الیدین: دستکاری میں ماہر شخص۔ م صنیعة الیدین قومٌ صَنعَی و صِنعَی و صُنعَی و صَنَعَی و اَصناعُ الایدی: کام کے ماہرین۔ الصَانِع (فا) جمع صُنّاع: ہاتھ سے کام کرنے والا۔ الصَانِعَة: الصانع کا مونث کہتے ہیں۔ امرأةٌ صانِعَةُ الیدین: دستکاری میں ماہر عورت، عوام نوکرانی کو صانعة اور نوکر کو صانع کہتے ہیں۔ المَصنَع جمع مَصانِع: جس میں بارش کا پانی جمع ہو جیسے حوض، کارخانہ۔ المَصنُعَة: گھروں سے دور ہٹ کر شہد کی مکھیوں کے لئے جگہ۔ و المَصنُعَة جمع مصانع: وہ جگہ جہاں بارش کا پانی جمع کیا جاتا ہے جیسے حوض۔ المَصانِع: دیہات، قلعے، محلات۔

۲۔صَنَعَ ۔صَنعًا و صُنعًا الیه معروفًا: کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا اَصنَعَ الرجُلُ: دوسرے کی مدد کرنا۔ اصطَنَع عنده صنیعَةً: کے ساتھ نیکی کرنا فلانٌ: خیراتی کھانا پکانا المرزقَ: رزق پیش کرنا۔ الصُنع: احسان، رزق الصَنیع جمع صُنُع: احسان، کھانا الصنیعة جمع صَنائع: احسان۔ المَصنَعَة: کھانے کی دعوت کہتے ہیں۔ کُنّا فی مَصنَعة فلان: ہم فلاں کے ہاں کھانے کی دعوت پر تھے۔

۳۔صَنَعَ ۔صَنعًا و صَنعَة الفرسَ: گھوڑے کو اچھی

لنفسه: کو اپنے لئے چن لینا۔ صَنعَةُ الفرس: گھوڑے کو سدھارنے کا ہنر۔ الصَنیع جمع صُنُع: سدھایا ہوا گھوڑا کہتے ہیں۔ سیفٌ صَنیع: صیقل کی ہوئی تلوار۔ فلانٌ صنیعی: فلان میرا تربیت یافتہ ہے۔ الصَنیعَة: کہتے ہیں: هو صَنیعتی: میں نے اس کی تربیت کی، ماہر بنایا اور نیک کاموں کے لئے وقف کر دیا۔

۴۔صَانَعَ مُصانَعَةً ہُ: کو دھوکا دینا فریب دینے کی کوشش کرنا، کو رشوت دینا۔ مثل ہے: من صانَعَ بالمال لم یحتشم من طلب الحاجة: رشوت دینے والا اپنا کام کروانے سے نہیں شرماتا۔ ـهُ عن الشیء: کو کے متعلق دھوکا دینا۔ الرجلَ: کو رفیق بنانا۔

۵۔الصُنع: (ح) ایک چھوٹا جانور۔

○ صَنَعَ ۔صَنعًا و صُنعًا و صَنیعًا ہ: کچھ کرنا، بنانا، کو تربیت دینا، کو شاندار طریقے سے کرنا، کا خاکہ، نقشہ یا ڈیزائن بنانا۔ صَنَعَ الیه معروفا: پر مہربانی کرنا۔ صنع معه جمیلا: پر کرم فرمائی کرنا۔ صنع به صنیعا قبیحا: کے ساتھ برائی کرنا۔ صَانَعَ ہ / ہ: کے ساتھ تعاون کرنا۔ ـ ہ: کی خوشامد کرنا، سے چاپلوسی سے کام نکالنا۔ ہ ب: کو کچھ رشوت دینا۔ تَصَنَّعَ: کا بہانہ کرنا یا بنانا، کا حیلہ کرنا، تصنع کرنا، بنا (بناوٹی چیز) سر منڈھانا، جھوٹ، موٹ کرنا، بناوٹ سے کام لینا، جھوٹا اظہار کرنا۔ ـ: مصنوعی طریقہ سے بولنا یا لکھنا (عورت کا) اپنے حسن کی دلکشی بڑھانے کے لئے مختلف ذرائع استعمال کرنا۔ اصطنع ہ: کا حکم دینا، کی تخلیق کرنا (مرکبات کے ذریعے) بنانا، کو ایجاد کرنا، کا بہانہ کرنا۔ ہ ل: کو کیلئے استعمال کرنا، کو میں بدلنا۔ ہ ل: کو کا پابند بنانا، کو ذمہ دار بنانا۔ استصنع ہ ہ: سے کچھ بنوانا۔ صَنعُ و صُنع: پیداوار، بنانا، ڈیزائن کرنا، کاریگری، مہارت۔ صنع الید: دستکاری۔ بدیع الصُنع: حیرت انگیز کاریگری، مہارت کا۔ صُنعی: مصنوعی، ترکیبی۔ صُنع: مہربانی، کرم، بہتری، نفع منفعت، بہبود، فائدہ۔ صَنعَة: کام، کاریگری، مہارت، بنانا، فن، فنی مہارت، فنکارانہ مہارت، ہنر، پیشہ، کام۔ صاحب الصَنعَة: کاریگر، دستکار، صناع، ماہر، متخصص، سپیشلسٹ۔ صَناع الید: ماہر، سبک دست، کاریگر، منجھا ہوا۔ مَشّاق صِناعَة جمع صِناعات و صَنائِع: فن، مہارت، پیشہ، بزنس، کاروبار، دستکاری انڈسٹری، صنعت (جمع کے معنی میں (صنعت کی شاخیں، صنعتیں۔

کاریگر لوگ، دستکار لوگ۔ رجلُ الصناعة: صنعتکار دستکار لوگ، دکاندار لوگ۔ اصحابُ الصنائع والحِرف: مصنوعی، ترکیبی، نقلی (imitation)

صِناعِیّ: صنعتی ماہرانہ، دستکاری کے متعلق، صنعتی، عملی فنون، خوبصورت یا راز۔ سر صناعی: الفن الصِناعِیّ: فنکارانہ دستکاری۔

صَنیع: کام، حقیقت، نیکی، بھلائی، بہبود، مہربانی، کرم فرمائی، رضا کار آلہ کار، کھانا۔ جمع صَنائع۔ صنیعة: کام، نیکی، بھلائی، بہبود، مہربانی کرم، رضا کار، آلۂ کار۔ جمع مَصانع

مَصنَع: فیکٹری، پلانٹ، مل، کارخانہ، فرم۔

مصانع: بڑی بڑی عمارات، تنصیبات، انسانی ہاتھوں کے کام۔

مصانع: صنعتکار، ارباب (اصحاب)۔ کارخانے دار۔ المصانع: تنخواہ، اجرت۔

مَصنَعیّة: صنعتیں، قائم کرنا۔ تصنیع: صنعتی بنانا۔

تصنّع: منافقت، مکاری، نیت کو پوشیدہ رکھنا، بناوٹ، تصنع، جھوٹی مروت، تکلف، عجیب مخصوص انداز۔

اصطناع: بنانا۔ اصطناعی: مصنوعی، ترکیبی نقلی۔

صانِع جمع صُنّاع: بنانے والا، خالق، کاریگر، دستکار، کام کرنے والا، کارکن، مل مزدور، مزدور، نوکر۔

مَصنوع: پیداوار، مصنوعہ چیز جمع (مصنوعی) مصنوعات، مَصنوعات: پیداوار، اشیاء، مصنوعہ سامان۔

مُتصنِّع: باریکیاں پیدا کرنے والا، ظاہر دار، بناوٹی، تصنع والا۔

مُصطَنِع: مصنوعی، ترکیبی، بناوٹی، نقلی، جعلی۔ مِفتاحٌ مصطنع: نقلی چابی، ماسٹر کی (master key)

صنف: ۱- صَنَّفَ الشیءَ: کی صنفیں بنانا، کے زمرے بنانا، کو ایک دوسرے سے تمیز کرنا۔ الشجرُ: درخت کا طرح طرح کے پتے نکالنا۔ التمرُ: کھجور کا کچھ کچھ پکنا۔ تَصنَّفَ الشجرُ او النباتُ: درخت یا نباتات کا مختلف قسمیں ہونا۔ الصِنف جمع أصناف و صُنُوف: اسکی صفت کہتے ہیں۔ صِنفُهُ کذا: صفت ایسی ہے۔ والصَنف جمع أصناف و صُنُوف: نوع، قسم کہتے ہیں۔ عنده صنفٌ من الامتعة: اس کے پاس چیزوں کی ایک قسم ہے۔

۲- تَصَنَّفَ الشجرُ او النباتُ: درخت یا نباتات کا پتے نکالنا۔ ت الشفةُ: ہونٹ کا پھٹنا، چھلنا۔ ت الساقُ: ٹانگ تڑق نی۔ الأصنف جمع صُنف (ح) وہ شتر مرغ جس کی ٹانگیں پھٹی ہوئی ہوں۔

۳- صَنَّفَ الکتابَ: کتاب تصنیف کرنا، مرتب کرنا۔ التصانیف: (واحد تصنیف) تصنیف شدہ کتابیں۔ المُصنَّف جمع مُصنَّفات: کتاب (تالیف شدہ)

۴- صِنفُ الثوب جمع أصناف و صُنُوف: کپڑے کا کنارہ، حاشیہ۔ الصِنفَة والصَنِفَة من الثوب: کپڑے کا کنارہ، حاشیہ۔

۵- الصُنافِر: ہر چیز کا اصل۔ الصُنافِرة: کہتے ہیں۔ ولدٌ صُنافِرةٌ: جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔

صَنَّفَ ه: کی الگ الگ ڈھیریاں بنانا، کی چھانٹ چھانٹ کر قسمیں الگ الگ کرنا، کی درجہ بندی کرنا، قسم مقرر کرنا۔ ه: (کتاب) مرتب کرنا، تالیف کرنا، لکھنا۔ صَنف و صِنف جمع أصناف و صُنُوف: قسم، نمونہ، مثال، چیز، جنس، نوع، طبقہ، درجہ، زمرہ، جنس۔ (sex) صِنفاً: جنس کی صورت میں۔ تصنیف: ترتیب، درجہ بندی، الگ الگ ڈھیریاں بنانا، چھانٹ چھانٹ کر قسمیں الگ الگ کرنا، تالیف، تدوین، تحریر، انشاء، لکھنا جمع تصانیف: ادبی (تخلیقی) کام، کلیات، تحریریں۔ تَصنیفَة: چھانٹ چھانٹ کر بنائی ہوئی قسم، انتخاب، چنی ہوئی چیزیں۔ مُصنِّف: مصنف، لکھنے والا، قلم کار۔ مُصَنَّف جمع مُصَنَّفات: ادبی کام۔

صَنفَرَ ه: کو ریگمال سے رگڑنا، کو ریگمال کرنا۔

صنق: ۱- صَنِقَ - صَنَقاً جسدُهُ او ابطُهُ: جسم یا بغل کا بہت بدبودار ہونا۔ صفت۔ صَنِق۔ أَصنَقَ العرقُ الرجلَ: پسینہ کا کسی کی بغل کو بدبودار بنانا۔ الصَنَق (مص) بغل کی تیز بدبو۔ الصَنِق: بدبودار۔ الصانِق جمع صَنَقة: سخت بدبودار۔

۲- أَصنَقَ علیه: پر اصرار کرنا۔

۳- أَصنَقَ فی مالِه: مال کی اچھی دیکھ بھال کرنا۔ المُصنِق والمِصناق: اونٹوں کی اچھی خدمت کرنے والا۔

۴- رَجُلٌ صَنِق: بھاری بھرکم مرد، لحیم شحیم، جسیم، موٹا، فربہ آدمی۔

صنم: صَنِمَ - صَنَماً العبدُ: غلام کا مضبوط و قوی ہونا صفت۔ صَنِم م صَنِمَة جمع صَنِمات۔ ت الرائحةُ: بو کا خراب ہونا۔ صَنَّمَ: آواز دینا۔ الصَنَم جمع أصنام: بت (فارسی، آرامی یا عبرانی لفظ) الصَنَمة: (جانور کے) پر کا قلم، مصیبت۔

صنا: ۱- أَصنَی اِصناءً و تَصَنَّی تَصَنِّیاً: حرص کی وجہ سے ہانڈی کے پاس بیٹھ کر کباب بنانا، گوشت بھوننا، یہاں تک کہ راکھ لگ جائے۔ الصِناء و الصِنَی: راکھ۔

۲- أَصنَی النخلُ: درخت خرما کا جڑ سے دوشاخیں نکالنا۔ الصِنو م صِنوة جمع أصناء و صِنوان: سگا بھائی، بیٹا، چچا۔ او الصِنو: ایک جڑ سے دو یا دو سے زائد کھجور کے درخت پھوٹیں تو ہر ایک کو صِنو یا صُنو کہتے ہیں۔ تثنیہ: صِنوان جمع صِنوان و صُنیان کہتے ہیں۔ رَکِیَّتانِ صِنوان: یعنی پاس پاس ایک ہی چشمے سے نکلنے والے دو کنویں۔ الصَنوة والصِنوة: سگی بہن، بیٹی، پھوپھی۔ درخت خرما کا ننھا پودا، کونپل۔

۳- الصَنو جمع صُنُوّ: دو پہاڑوں کے درمیان گہرائی جس میں تھوڑا پانی بہتا ہو۔ الصانی: خدمت گار۔ الصِنایَة: تمام، کل، کہتے ہیں۔ أَخَذَ بصنایته: اس نے تمام کا تمام لے لیا۔

صِنو جمع صِنوان و أَصناء: دو میں سے ایک، جڑواں بھائی۔

صه: ۱- صَهْ: اسم فعل بمعنی چپ رہ خاموش ہو۔ (مذکر مونث اور جمع کے لئے یکساں ہے) کہتے ہیں۔ صَهٍ: خاموش۔ صَهَّ القومَ: لوگوں کو جھاڑ جھاڑ کرنا، ڈانٹنا۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔

۲- صَهصَهَ بالقوم: صہ صہ کہہ کر لوگوں کو خاموش کرنا۔

صهب: ۱- صَهِبَ - صَهَباً و صُهبَةً و صُهُوباً و اصهَبَّ و اصهابَّ الشعرُ: بالوں کا سرخ یا سرخ سفید ہونا صفت۔ اصهَبَ الصُهاب: ایک جگہ جس کی طرف اونٹ منسوب ہوتے ہیں۔ الصُهابی من الجمال: موضع صُهاب کی طرف منسوب اونٹ جو بہت سفید نہ ہو۔ الأَصهَب م صَهباء جمع صُهب: سرخی ملی سفیدی والا (ح) شیر۔ أَصهَبُ السِبال: دشمن۔ الصَهباء: الأصهب کا مونث: شراب۔ المُصَهَّب: چربی ملا گوشت، نیم بریاں گوشت۔

۲- الصُهابی: وافر، سخت، اسی سے ہے۔ الموت الصُهابی: سخت قسم کی موت۔ الصَیهَب جمع صَیاهِب: لمبا تڑنگا آدمی، سخت چٹان، ہموار زمین، گرمی کی تیزی، گرم دن، جگہ جہاں دھوپ کی گرمی سے گوشت بھن جائے۔ الأَصهَب م صَهباء جمع صُهب: ٹھنڈا دن۔

صهد: ۱- صَهَدَ - صَهداً تهُ الشمسُ: آفتاب کا کسی کو جھلسنا (صخدته بھی اس معنی میں ہے) الصَهدان والصَیهَد والصَیهود: گرمی کی تیزی۔

۲- الصَهود: نسیم۔ الصَیهَد والصَیهود: بے آب و گیاہ بیابان، متحرک سراب۔ عِزٌّ صَیهودٌ: ناقابل تسخیر قوت۔

کو پگھلانا، کو پگھلی

ہوئی چربی ملنا۔ الخبزَ: کو پگھلی ہوئی چربی کا سالن
بنانا۔ صفت مفعولی صهیر و مَصْهُور ۔۔۔ ـه
الشمسُ: کو سورج کا گرمی پہنچانا۔ فُلانًا
بالیمین: کو سخت قسم کھلانا۔ اصْطَهَرَ الشیءَ: کو
پگھلانا۔ واصْهارَّ الحرباءُ: گرگٹ کی پیٹھ کا دھوپ
کی گرمی سے چمک اٹھنا۔ انْصَهَرَ الشیءُ:
پگھلنا۔ الصَّهْر: (مص) گرم۔ الصُّهارة: پگھلائی
ہوئی چیز، ہڈی کا گودا، چربی کا ٹکڑا۔ الصهور جمع صُهُر
پگھلانے والا، گوشت بھوننے والا۔ الصَّهِیر:
پگھلنے والا۔

۲۔ صَهَرَ - صَهْرًا الشیءَ: کو قریب کرنا، نزدیک
کرنا۔ صَاهَرَ مُصَاهَرَةً القومَ و فی القومِ: کا
سسر بننا، داماد بننا۔ اُصْهِرَهُ: کو قریب کرنا، نزدیک
کرنا۔ ۔۔۔ بالقوم و الیهم و فیهم: کا سسر بننا،
داماد بننا۔ الجیشُ للجیشِ: لشکر کے ایک حصہ کا
دوسرے حصے کے قریب ہونا۔ الصِّهْر جمع اَصْهار
صِهْرَة: قرابت، داماد یا بہنوئی۔

۲۔ صَهْرَجَ الغرفةَ: کمرہ کو چونے سے لیپنا۔ الصاروج:
چونا (ان بجھا) الصِّهْرِیج والصُّهَارِج (ج)
صَهَارِیج و الصِّهْرِی: پانی کا حوض، تالاب، تیل کی
ٹینکی، پانی یا تیل جیسی اشیاء لے جانے والا ٹرک۔
حوض صُهَارِج: حوض یا ٹنکی جس کو چونے سے
لیپا گیا ہو۔ (فارسی لفظ)

⊙ صَهَرَ - صَهْرًا ه: کو پگھلانا۔ صَاهَرَ ه او فی:
کا شادی کے ذریعے رشتہ دار بن جانا۔ أصْهَرَ ب او
الی: شادی کے ذریعہ کا رشتہ دار بن جانا۔ تَصَاهَرَ:
شادی کے ذریعہ رشتہ دار ہونا۔ انْصَهَرَ: پگھلنا ختم
ہو جانا، جاتا رہنا، آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہو
جانا، ٹوٹنا، شدت کم ہونا، زور ٹوٹنا۔ مَصَاهِر:
پگھلانے والی بھٹیاں۔ مِصْهَر جمع مِصْهَرات فیوز
مُصَاهَرَة قرابت، قرابت داری، رشتہ داری، تعلق
(ازاربندی) اِنْصِهَار: پگھلانے کا عمل۔ سِلك
الانصهار الواقی: فیوز۔ صِهْرِیج و صَهْرِیج
جمع صَهَارِیج: حوض، ٹینکی، تالاب، پانی کی بڑی
ٹینکی۔

صهص: الصَّهْصَلِق والصَّهْصَلِیق من الاصوات
سخت آواز۔

صهل: صَهَلَ - صَهِیلًا و صَاهِلَةً و صُهَالًا الفرسُ:
گھوڑے کا ہنہنانا۔ تَصَاهَلَ ت الخیلُ: گھوڑوں
کا ایک دوسرے کی طرف ہنہنانا۔ الصَّهَل: گلا
پڑنے کے ساتھ آواز کی تیزی۔ الصَّاهِل جمع صَوَاهِل
(فا): گھوڑا (جس طرح ناچ کتے کو کہا جاتا ہے)
الصَّاهِلَة جمع صَوَاهِل صَاهِل کی مونث۔ الصُّوَاهِل:
گھاس میں مکھیوں وغیرہ کی بھنبھناہٹ۔ الصُّهَال
والصَّهِیل: گھوڑے کی آواز، ہنہناہٹ۔ الصَّهَّال
من الخیل: بہت ہنہنانے والا گھوڑا۔

صها: ۱۔ صَهَا - صَهْوًا و صَهِیَ یَصْهَی صَهًی:
نمناک زخم والا ہونا۔ ۔ الرجُلُ: مالدار ہونا۔

۲۔ صَهِیَ - صَهْیًا: عمر رسیدہ ہونا۔

۳۔ صَاهَی الدابةَ: جانور کی پیٹھ پر سوار ہونا۔ أصْهَی
اصْهَاءَ الفرسُ: گھوڑے کی پیٹھ کا درد کرنا۔ الصَّهْوَة
جمع صِهَاء و صَهَوَات: گھوڑے کی پیٹھ (کہتے
ہیں۔ استوی علی صَهْوَةِ العِزّ: وہ طاقت کی
پشت پر سوار ہوا) کوہان کا پچھلا حصہ۔ جمع صُهًی
پہاڑ کی چوٹی کا برج۔ جمع صِهَاء: پست زمین جس
میں پانی اکٹھا ہو جائے، پانی کا چشمہ۔

⊙ صَهْیُون: صیہون (zion)
صِهْیُونی: صیہونی (zionistic, zionist)
صَهْیُونِیة: صہونیت۔

نوٹ: صیہون کے تین مفہوم ہیں (۱) بیت المقدس،
القدس، یروشلم (۲) اس کی مقدس پہاڑی،
(۳) آسمانی بادشاہت، صہونیت، ایک تحریک ہے جس کا
نقطۂ عروج اسرائیل کی نام نہاد ریاست کا قیام ہے۔

صاب: ۱۔ صَابَ - صَوْبًا و مَصَابًا المطرُ: بارش
برسنا۔ الشیءُ: اوپر سے اترنا۔ ۔۔۔ صَوْبًا الماءَ:
پانی بہانا۔ ہُ المطرُ: کو بارش کا پہنچنا۔ ت السماءُ
الارضَ: آسمان کا زمین پر پانی برسانا۔ صَوَّبَ الماءَ:
پانی گرانا۔ الاناءَ: برتن کو جھکانا تاکہ اس میں کا پانی
وغیرہ نکل جائے۔ ۔ رأسَهُ: سر کو نیچے کرنا۔ المکانَ
وغیرہ: کی جگہ وغیرہ کا ڈھلوان ہونا۔ أصَابَ
الشیءَ: کو نیچے لانا، پانا، جڑ سے اکھیڑنا۔ ۔۔ ت
المصیبةُ فلانًا: پر مصیبت نازل ہونا۔ إصَابَةً و
مُصَابَةً الدهرُ القومَ بامو الهم او نفوسهم
زمانہ کا لوگوں کو ان کے مال اور جانوں کی تکلیف دینا،
لوگوں پر مالی و جانی مصیبت ڈالنا۔ تَصَوَّبَ: نیچے
اترنا۔ انصاب انصبابًا الماءُ: پانی بہنا، زور سے
نکلنا۔ الصَّاب: (واحد صابة) (ن) ایک کڑوا
پودا، اس پودہ کا رس، عرق۔ الصَّابَة: مصیبت۔
الصَّوْب: بخشش، عطاء۔ والصَّیِّب: بارش والا
بادل۔ مطرٌ صَیُّوبٌ: برسنے والی بارش۔ الأصوب:
اسم تفضیل، سخت مصیبت والا۔ المُصِیبة جمع مَصَائِب
و مَصَاوِب و مُصِیبات و المُصَابُ و المَصَابة
والمَصُوبة: مصیبت، بلا، صدمہ، ناگہانی آفت،
حادثہ، سانحہ۔

۲۔ صَابَ - صَوْبًا و صَیْبُوبَةً السهمُ نحوَ الرمیّة:
تیر کا سیدھا جا کر نشانہ پر لگنا۔ ۔۔۔ صَیْبًا السهمُ
القرطاسَ: تیر کا نشانہ پر لگنا۔ صَوَّبَ السهمَ:
تیر کو سیدھا کرنا۔ الفرسَ: گھوڑے کو دوڑنے کے
لئے چھوڑنا۔ رأیَهُ: رائے کی تصدیق کرنا۔ ۔ فلانًا:
کی تصدیق کرنا۔ أصَابَ السهمُ: تیر کا ٹھیک
نشانہ پر لگنا۔ ۔۔۔ الرجُلُ: درست کرنا۔ الشیءَ:
کو ٹھیک خیال کرنا۔ ہُ بعینه: کو نظر لگانا۔ استصاب
استِصَابَةً او استَصْوَبَ اِستِصْوَابًا الرأیَ
او الفعلَ: کسی رائے یا فعل کو ٹھیک خیال کرنا۔ الصَّوْب:
(مص) درستگی، جانب کہتے ہیں: فلانٌ مُستقیمُ
الصَّوب: فلاں شخص اپنے مقصد سے دائیں بائیں
نہیں ہٹا۔ الصَّوَاب: درستگی، درست، ٹھیک، لائق،
حق، عام لوگ اس کو عقل اور شعور کے معنی میں استعمال
کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں۔ غاب او طار صوابُه:
اس کا عقل و شعور جاتا رہا۔ الصَّائب (فا): جمع
صِیَاب (جیسے نائم و نیام) ٹھیک، صحیح، حق۔ جمع صُوَّابَة
و صُیَّاب و صُیَّابَة القوم: قوم کے چیدہ لوگ۔
الصَّوِیب: ٹھیک رائے والا۔ الصَّیُّوب: ذہین۔
المُصَاب: مصیبت (کا شکار) چوٹ ضرب۔
المُصِیب: صحیح، درست۔

۳۔ أصَابَ من الشیءِ: ہ کو لینا۔ المِصْوَب: چمچہ،
ڈوئی۔

۴۔ الصاب بعقل کی کمزوری کہتے ہیں۔ فی عقله صابةٌ:
یعنی اس کی عقل میں کچھ جنون ہے۔ الصُّوبَة: غلہ کا
ڈھیر۔ المُصَاب: تھوڑا پاگل (ن) گنا۔
الصَّوبَج والمِصْوَبَج: بیلن۔

۵۔ ⊙ صَابَ - صَوْبًا و صَیْبُوبَةً ه (نشانہ) پر لگنا، صحیح
ہونا، درست ہونا۔ متعلقہ ہونا (رائے کا) برمحل ہونا،
موزوں ہونا، مناسب ہونا۔ صَابَ ام اقلع
حالات کے تحت۔ یقینا۔ صَوَّبَ (ه الی): سب
کی طرف کرنا۔ کا رخ (ه) سے اتفاق کرنا، متفق ہونا۔
(ه ه): سے میں اتفاق کرنا، متفق ہونا۔ ۔۔ ه: کو
ماننا، ہاں کہنا، کی اجازت یا منظوری دینا، پر رضامندی
ظاہر کرنا، کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا۔
أصَابَ ه: نشانہ پر لگنا۔ ۔۔ ه: کو حاصل کرنا،
تک پہنچنا۔ ۔۔ ه: کے لئے ہاتھ بڑھانا۔
کو حاصل کرنا، جیتنا۔ ه (علم و معرفت کا کچھ حصہ)
اکتساب کرنا۔ ه (کھانا وغیرہ) کھانا تناول کرنا۔

پر پڑنا، واقع ہونا، کو پیش آنا، واقع ہونا۔ — ہ
ب: کو کچھ دینا، کے لئے کچھ مختص کرنا، متعین کرنا، کو
کچھ عطا کرنا، سے سرفراز کرنا۔ ب ہ: کوئی چیز کسی
کے حصہ میں آنے دینا۔ —: کو نقصانات پہنچانا،
— درست ہونا، حق پر ہونا، صحیح کام کرنا، صحیح بات کہنا۔
اُصیب ب: مصیبت (وغیرہ) زدہ ہونا) بیماری میں
مبتلا ہونا، تکلیف میں پڑنا۔ ——: مارا جانا۔ اصاب
اصابات: (کھیلوں میں) گول کرنا۔ اصاب فی
عملہ: صحیح کام کرنا، درست طور پر کوئی کام کرنا۔
اُصِیبَ بجراحٍ کو کوئی زخم آنا۔ اصیب بخسارة:
نقصان اٹھانا۔ اصیبَ اصابةً شدیدةً: سخت
چوٹ کھانا۔ استصوب ہ کو پسند کرنا، پسندیدگی کی
نظر سے دیکھنا، منظور کرنا، کی منظوری دینا۔ صوب:
طرف، جانب، صحیح اور حق بات، مناسب صحیح۔
صوبَ: کی طرف، کی جانب۔ من کل حَدَبٍ و
صوبٍ یا من کل صوب و حدب یا من کل
فج و صوب: سب طرف سے، چاروں طرف
سے، ہر طرف سے۔ فی کل صوب وحدب: ہر
جگہ، چاروں طرف، سب جگہ۔ صَیِّب: بارش والا
بادل۔ صَابَۃ جمع صَابات: کنائی۔ صواب حق،
موزوں اور صحیح درست، مناسب، ٹھیک، درستگی،
موزونیت، عقل، سمجھ، ذہانت، فہم فراست، ذہن
دماغ، شعور۔ صَواباً: ٹھیک، انصاف سے۔ ہو
علی صواب: وہ حق پر ہے۔ سَلَكَ طریق
الصوابِ والحقِ: بالکل صحیح طریقے سے کام کرنا،
صحیح راستہ پر چلنا۔ رجع (فاء) الی صوابہ:
دوبارہ عقل وشعور حاصل کرنا، دوبارہ ہوش میں آنا،
دوبارہ معقول ومناسب ہو جانا۔ قَصَدَ صوابَہُ،
اضاع صوابَہٗ: ہوش کھو دینا۔ غاب عن صوابہ:
بیہوش ہو جانا۔ غائب عن صوابہ: بیہوش۔
اَصوَب: زیادہ برمحل، زیادہ موزوں، زیادہ مناسب،
زیادہ صحیح۔ اُصْوِبَۃ: مناسبت، مصلحت، دانشمندی۔
اصابة جمع اصابات: مارنا، گول، سکور، زخم، چوٹ،
کسی بیماری کا شکار ہونا (بیماری، حادثہ کا) حملہ۔
اصابة العمل: صنعتی حادثہ۔ محل الاصابة:
حادثہ کی جگہ، استصواب: پسند، پسندیدگی، اجازت
منظوری۔ صائب: برمحل، موزوں، مناسب، ٹھیک
درست، برجستہ، برمحل، موزوں، مناسب، ٹھیک، صحیح۔
مُصِیبَۃ جمع مُصِیبات و مَصائب: بدبختی،
حادثہ، مصیبت، آفت، سانحہ۔ مُصَاب ب: کا
شکار، میں مبتلا، جس پر کوئی تکلیف آپڑی ہو، جس کو دکھ
پہنچا ہو، —: چوٹ زدہ، زخمی، بیمار، زخمی شخص، جنگ یا
حادثہ کا مقتول یا مجروح، حادثہ کا شکار۔ ——: بدبختی
مصیبت، آفت، سانحہ۔ مُصابٌ الیم: المناک، پر
ملال حادثہ، غمگین واقعہ، موت۔ صَوْبَۃ: ولایتی چولہا
(stove) (ترکی کا لفظ ہے اور اس معنی میں شام میں
مستعمل ہے)

صات: ۱۔ صَاتَ ۔صَوْتاً: آواز نکالنا، آواز دینا،
پکارنا۔ صَوَّتَ تصویتاً آواز نکالنا، آواز دینا۔
الطستَ: طشت بجانا۔ فی الانتخابات انتخابات
میں اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ دینا۔ أَصَاتَ
اصاتۃً: آواز نکالنا، آواز دینا۔ الطستَ: طشت
بجانا۔ انْصَاتَ: کہتے ہیں۔ دُعِیَ فانصات اسے
پکارا کیا گیا تو اس نے سنا اور چلا آیا۔ الصَّوْت جمع
اصْوَات: آواز، ہر قسم کا راگ، نحویوں کے نزدیک:
اسماء اصوات: (وہ الفاظ ہیں جن سے آواز کی
نقل کی جائے) جیسے طَقْ: پتھر گرنے کی آواز ہے یا
حیوانات سے کام لینے کے لئے جو آواز نکالی جائے
جیسے ہَلاً گھوڑے کو۔ عَدَسْ خچر کو ڈانٹنے کے
لئے یا تعجب کی حکایت کی جائے جیسے وَیُ یا درد کی
حکایت ہو جیسے اخ یا حسرت وافسوس کے لئے ہو
جیسے آہ۔ الصات والصَیِّت: بلند اور تیز آواز والا
کہتے ہیں۔ رَجُلٌ صاتٌ و صوتٌ صَیِّتٌ: یعنی
بلند آواز والا آدمی اور تیز آواز۔ الصِیتَۃ: اسم نوع۔
التصویت: انتخابات میں ووٹ دینا، ووٹ۔
المِصْوَات بہت آواز دینے والا کہتے ہیں۔
ما بالدار مِصْواتٌ: گھر میں کوئی بھی نہیں۔
المُصَوِّت جمع مُصَوِّتون: ووٹر، ووٹ دہندہ،
رائے دہندہ۔

۲۔ أَصَاتَ بِفلانٍ: کسی کو ایسی بات سے مشہور کرنا جس
کو وہ پسند نہیں کرتا۔ انصاتَ بہ الزمانُ زمانہ نے
اس کو مشہور کر دیا وہ مشہور ہو گیا۔ الصَوْت والصَات
و الصِیْت و الصِیتَۃ: اچھی شہرت کہتے ہیں۔
انتَشَر صوتُہُ بین الناس: یعنی اس کی اچھی شہرت
لوگوں میں پھیل گئی۔

۳۔ انْصَاتَ الرجُل: چپکے سے چلا جانا۔

۴۔ انْصَاتَ الرجُل: کبڑا ہونے کے بعد کسی کے قد کا
سیدھا ہو جانا۔

○ صَاتَ ۔صَوتاً: آواز دینا یا نکالنا، آواز بلند کرنا،
چلانا۔ صَوَّتَ بمعنی صات نیز ووٹ دینا، ووٹ
ڈالنا (انتخابات میں) صَوْت جمع اصوات: آواز،
لہجہ، سر، موسیقی، نغمات، دھن، شور، شہرت، نیک نامی،
چرچا، مشہوری، ووٹ (جمع حروف ندبہ وفجائیہ) بُعد
الصوت: شہرت ناموری۔ رجع الصوت:
گونج، صدائے بازگشت، بازارتعاش۔ علم الاصوات:
صوتیات (Phonetics) قوّة الصوت: (آواز
کا) حجم یا گونج، زور، شدت۔ (ریڈیو کی اصطلاح
میں) بصوتٍ مَسْمُوع اتنی آواز سے کہ سنی جا سکے۔
بصوت عالٍ: زور سے چلا کر۔ بصوت واطِیٍ:
نیچی آواز میں، دھیمے پن سے، سرگوشی کے انداز میں۔
صَوْتِی ملفوظ، آواز کا، نطقی، صوتی، سماعی، گونجتا ہو،
گونج پیدا کرنے والا۔ صُوَات چلانے والا۔ صِیت:
(اچھی) شہرت، مسلمہ حیثیت، وقار ناموری۔
مشہوری۔ بعدُ الصِیت: شہرت، ناموری۔ ذائع
الصیت: مشہور، نامی گرامی۔ صَیِّت: بلند آواز
کا، لاؤڈ سپیکر (شام میں مستعمل ہے) مِصْوَات:
مکبر الصوت، آواز رسان، مائکروفون۔ تصویت: ووٹ
دینا، ووٹ ڈالنا، پولنگ۔ (polling) صائت:
کولن دار (مرکب الفاظ میں) سینما صائتۃ: بولتی
فلم۔ مُصَوِّت: ووٹر، رائے دہندہ، ووٹ دینے کا
حقدار، حق رائے دہی کا مالک۔

صاج: الصاج: توا (روٹی پکانے کا) پتلی چادر کا لوہا۔
الصُوجہ (ن): ایک اناج کا پودا۔
○ صاج مُضَلَّع: نالی دار چادر۔

صاح: ۱۔ صَاحَ ۔صَوْحَاۃً: کو چیرنا، پھاڑنا۔
تَصَوَّحَ: پھٹنا۔ انْصَاحَ انصِیاحًا: پھٹنا۔
الفجرُ: صبح کا روشن ہونا۔

۲۔ صَوَّحَ البقلُ: خشک ہونا۔ سبزی ترکاری کا خشک
ہو۔ تہ الشمسُ او الریحُ: کو سورج یا ہوا کا خشک
کر دینا۔ تَصَوَّحَ: خشک ہونا۔ الصاحۃ: بنجر
زمین۔ الصُواح: کھجور کا خشک شگوفہ۔ الصُوحان:
خشک۔

۳۔ الصَوْح والصُوح: دریا کا کنارہ۔ دامنِ کوہ۔
الصُواح: گھوڑوں کا پسینہ۔

○ صَوَّحَ ہ: کو خشک کرنا۔ مُصَوَّح مرجھائی ہوئی یا
خشک کی ہوئی (جڑی بوٹی وغیرہ۔)

صاخ: صَاخَ ۔صَوْخاً فی الارض: زمین میں دھنسنا۔
أَصَاخَ اصاخةً لہ والیہ: کی بات پر کان لگانا،
کو سننا۔ کہتے ہیں: أَصَاخَ عن کذا: سے واپس
ہونا، باز رہنا۔ أَصَاخَ علی حقِ فلان: وہ فلاں کے
حق ضائع کرنے پر خاموش رہا۔ الصاخۃ جمع صَاخ و
صَاخات: مصیبت، ہڈی میں چوٹ کا اثر۔ بلدٌ
صُوَّاخٌ: وہ جگہ جہاں پاؤں دھنس جاتے ہوں۔

أَصاخ اليه وله: کوغور سے سننا، پرکان لگانا، کان دھرنا۔

صود: الصوديوم Sodium صودا Soda صودا کاوية کاسٹک سوڈا۔ نترات الصودا sodium nitrate

صار ۱۔ صَارَ ۔صُوَارًا: آواز دینا، عام لوگ کہتے ہیں۔ صَوَّرَهٗ بصوته اپنی آواز کی تیزی سے اسکو بہرا کردیا (سریانیہ) الصُور: نرسنگھا، بگل۔

۲۔ صار ۔صَوراً الشیء: کو جھکانا آپ کہتے ہیں۔ صارعُنقَهٗ او وجههٗ اِلَیّ: اس نے اپنی گردن یا اپنا چہرے میری طرف جھکایا اور میری طرف متوجہ ہوا، کو اپنی طرف جھکانا کہتے ہیں۔ صُرتُ الغصن لاجتنی الثمر میں نے پھل توڑنے کے لئے ٹہنی کو اپنی طرف جھکایا اور یوں بھی کہتے ہیں: صارهُ لِصيرُه بصيراً اس نے اسے اپنی طرف جھکایا۔ صَوِرَ يَصْوَرُ صَوَراً: جھکنا صفت۔ أَصْوَر کہتے ہیں۔ هو اصْوَرُ الی كذا: وہ اپنی گردن یا اپنے چہرے کو کسی چیز کی طرف جھکائے ہوئے ہے۔ أَصَارَهٗ: کو جھکانا، توڑنا۔ تَصَوَّرَ الرجُلُ: گرنا یا گرنے کی طرف مائل ہونا کہتے ہیں: طعنه فتصوّر: اس نے اسے خنجر مارا تو وہ گر پڑا یا گرنے لگا۔ اِنْصَارَ انصياراً: جھکنا یا ٹوٹنا۔ الصُورُ جمع صِيْرَان: گردن کا پہلو۔ الصَوَرُ (مص): میلان، جھکاؤ، کجی کہتے ہیں۔ فی عنقه صَوَرٌ: اس کی گردن میں کجی ہے، یعنی گردن ٹیڑھی ہے۔ الصَوْرَةُ: اسم مرۃ جھکاؤ، الأَصْوَرُ: جھکاؤ دار۔

۳۔ صَارَ ۔صُوْرًا الشیء: کو کاٹنا، جدا جدا کردینا، الگ الگ کردینا۔ صَوَّرَهٗ: کی تصویر بنانا، کی تصویر کھینچنا، کی شکل بنانا۔ صُوِّرَ: میرے خیال میں آیا۔ تَصَوَّرَ الشیء: کسی چیز کی شکل کو خیال میں لانا۔ لَهٗ الشیءُ: چیز کی شکل کا سامنے آجانا۔ الصُوْرَةُ جمع صُوَر و صِوَر و صُوْر: شکل، حلیہ، تصویر، خیالی تصویر، ہو بہو نقش، خصوصیت (کہتے ہیں: صورة الامر كذا: معاملہ کی خصوصیت یوں ہے)۔ قسم، چہرہ (کہتے ہیں۔ صورة العقل كذا: عقل کی ہیت اس طرح پر ہے)۔ (فلک) ستاروں کا ایک مجموعہ۔ الصَيِّرُ: اچھی صورت والا کہتے ہیں۔ رجُلٌ صَيِّرٌ شَيِّرٌ: اچھی شکل اور ہیت کا مرد۔ التَصَوُّرِیّ: تصورات و افکار پر بحث کے فن سے متعلق۔ التَصْوِير (ف ج): افراد اور اشیاء کی رنگوں میں تصویر کشی کا فن (پینٹنگ، فوٹوگرافی)۔ التصوير الشمسی: فوٹو گرافی، آلةُ تصوير: کیمرا۔ التصويرة جمع تصاوير: اسکیچو، بت، مجسمہ۔ المُصَوِّر (فا): تصویر بنانے والا۔ مُصَوِّر الكائنات: اللہ تعالیٰ۔ المُصَوَّرا و المُصَوَّر الجغرافی: اٹلس (Atlas)

۴۔ الصَوْرُ جمع صِيران و أَصْوَار: چھوٹا درخت خرما۔ جمع صِيران: دریا کا کنارہ۔ الصارة من الجبل: پہاڑ کی چوٹی۔ صارةُ المِسْك: مشک کا ڈبہ۔ الصَوْرة: سر کی کھجلی۔ الصُوار والصِوار جمع صِيران: گایوں کا گلہ، خوشبو، تھوڑا مشک، مشک کا ڈبہ۔ الصُوَّار: گایوں کا گلہ۔ الصِيار جمع صِيران: گایوں کا گلہ۔

صَوَّرَ ہ کی شکل بنانا، کو تخلیق کرنا۔ ہ/ہ کی رنگین تصویر کھینچنا۔ ہ با تصویر بنانا۔ ہ/ہ کی تصویر بنانا، کی فوٹو کھینچنا۔ ہ کو پیش کرنا، کی الفاظ میں تصویر کھینچنا، کی شبیہ بنانا، کی تصویر کھینچنا۔ صُوِّرَ له اسے دکھائی دیا، اس کے خیال میں آیا۔ تَصَوَّرَ: معنی کے لحاظ سے۔ صَوَّرَ کا صیغہ مجہول۔ ہ (کسی شئی) کی تصویر ذہن میں قائم کرنا، کا قیاس کرنا، اندازہ کرنا، کا تصور کرنا، کو خیال کرنا، سمجھنا، سوچنا۔ ہ/ہ کو سوچنا، خیال کرنا، تصور کرنا، سمجھنا۔ ہ/ہ ہونا (کوئی شخص یا چیز)۔ تَصَوَّرَ له: کو نظر آنا، معلوم ہونا، لگنا، دکھائی دینا۔ لايتصوره العقلُ: جس کا تصور تک ذہن میں نہ آسکے، ناقابل یقین، ناقابل تصور، بعید از قیاس۔ صُوْرَة جمع صُوَر: شکل، صورت، تصویر، باتصویر نمونہ، تصویر، مثال، تمثیل مجسمہ، بت، عکس، مشابہت، نقس، نقشہ، نقش ثانی، ہو بہو نقل، نقل، کاربن کاپی، ڈپلکیٹ (ثنیٰ) طریقہ، انداز، اسلوب۔ صُوْرَةً: رسمی طور پر۔ صُوْرَةٌ جامعةٌ: مجموعی کلی تصویر۔ صُوَرٌ مُتَحَرِّكَةٌ متحرک فلم۔ دار الصُوَر المتحركة: سینما۔ صُوْرَة شمسية: فوٹو گراف۔ صورةٌ طِبْقَ الأصل: صحیح نقل۔ ہو بہو تصویر۔ صُوْرَة مُكَبَّرة: بڑی کی ہوئی تصویر۔ enlarged photo graph۔ فی صُورةِ آدمیٍ: انسانی شکل میں۔ بصُورةٍ جَلِيَّةٍ: ظاہر ہے کہ، صاف طور پر۔ بصورة محسوسة: محسوس طور پر، واضح طور پر، قطعی طور پر۔ بصورة خاصةٍ: خاص کر، خصوصاً، بالخصوص۔ بصُورةٍ عامّةٍ: عام طور پر، عموماً، بالعموم۔ بصورة مُكَبَّرةٍ: بڑے پیمانہ پر۔ بصُورةٍ مَلْحُوظَةٍ: نمایاں طور پر، واضح طور پر۔ على صُورةٍ كيميائيةٍ: کیمیاوی طور پر، کیمیاوی ذریعہ سے۔ فی صُورةٍ مُصَغَّرةٍ: کم پیمانے پر۔ چھوٹے پیمانے پر۔ فی صورة ما اِذا: اگر اس صورت میں کہ۔ صُوَرِیّ: رسمی، سطحی، بناوٹی، مصنوعی، نقلی، دھوکے میں یا مغالطے میں ڈالنے والی مغالطہ آمیز، غیر حقیقی، خیالی، فرضی، موہوم، بظاہر، دیکھنے میں۔ تصوير: رنگین تصویر، فوٹوگرافی۔ التصوير الشمسی فوٹوگرافی، فلمایا ہوا منظر، شاٹ، ٹیک۔ آلة التصوير: کیمرا۔ تَصَوُّرٌ جمع تصورات: تخیل، قوت متخیلہ، پرواز خیال، قوت تخلیق، تصور، خیال آرائی، تخیل، خیالی پلاؤ، خیال فکر، ذہنی شکل۔ تصوری: صرف تصور میں موجود فرضی، غیر حقیقی، موہوم۔ المذهب التصوری: مثالیت، تصوریت، اصول پرستی۔ مُصَوِّر: شکل بنانے والا، خالق۔ مُصَوِّر، فوٹوگرافر، کیمرامین۔ مُصَوِّر الكائنات: خالق کائنات باری تعالیٰ۔ المصور الكهربائی للقلب (electro cardio graph)۔ مُصَوِّرة: کیمرا۔ مُصَوَّر: باتصویر جمع مُصَوَّرات: فوٹوگرافر کا سٹوڈیو، فلمی سٹوڈیو۔ مُصَوَّر الجغرافيا: اٹلس Atlas۔ صُور: طائر (جنوبی لبنان کا ایک قصبہ)

صوص: الصُوص لئیم: بخیل جو چھپا کر کھائے تا کہ مہمان اسے نہ دیکھے۔ عند العامةِ: عوام کے نزدیک، مرغی کا وہ چوزہ جو ابھی انڈہ سے نکلا ہو مگر اس کے لئے فصیح لفظ قوب ہے۔ صُوصُ الباب: دروازہ کی نچلی چول جس پر دروازہ گھومتا ہے اس کے مقابل اوپر کی سطح صحیح کہلاتی ہے۔

صاع ۔صَوْعًا الحبَّ: اناج کو صاع سے ناپنا۔ الصاع: ایک پیمانہ جمع أصواع و أصْوُع و أَصْوُع و صُوْع و صِيعان الصَوْع و الصُوْع جمع أَصْوَاع و أَصْوُع و أَصْوُع و صُوع و صِيعان: ایک پیمانہ۔ صيعان: پانی پینے کا پیالہ۔

۲۔ صَاعَ ۔صَوْعًا القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ الشیءَ: کو موڑنا، بکھیرنا۔ القومَ: لوگوں کے پاس اطراف سے آنا۔ ت النحلُ: شہد کی مکھیوں کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ ـ الرجُلَ: کو خوف دلانا، گھبرانا۔ تَصَوَّعَ: متفرق ہونا، دور ہونا، پھیلنا۔ الشَعْرُ: بالوں کا جھڑنا، سکڑنا، پراگندہ ہونا۔

۳۔ صَوَّعَ موضعًا للقطن: روئی دھننے کے لئے جگہ تیار کرنا۔ الصَاع: وہ صاف زمین جس میں کھیلا جائے۔ الصَاعَة: روئی یا اون دھننے کے لئے تیار کی ہوئی زمین کہتے ہیں۔ اتخذ لصوفك صاعةً: اون دھننے کے لئے جگہ تیار کر۔

۴۔ صَوَّعَتِ الريحُ النباتَ: ہوا کا پودوں کو ہلانا۔

الطائرُ براسه: پرندہ کا سر کو ہلانا۔ الفرسُ: گھوڑے کا سرکشی کرنا کہتے ہیں۔ صَوَّع به فرسُهُ: سے گھوڑے کا سرکشی کرنا اور قابو میں نہ آنا۔ تَصَوَّع النباتُ: پودے کا ہلنا۔

۵۔ صَوَّعَ الشیءَ: چیز کو گول اور تیز نوک والی بنانا۔

۶۔ انْصَاعَ انصیاعًا: جلد واپس آنا، گزرنا۔

۷۔ الصَاع: کھیلنے کا ڈنڈا (صولجان) سینے کا وسط، سینہ۔ والصَاعَة: پست زمین۔

○ انْصَاعَ: ناراض ہوکر اٹھ جانا۔ ۔۔لِ: کا حکم ماننا، کے حکم کی تعمیل کرنا، کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک جانا، کے آگے دب جانا، کی اطاعت اختیار کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ صَاع جمع أَصْوُع و اَصْوَاع و صِیعان: ایک مکعب پیمانہ۔ صَاعًا بِصَاعٍ: اوے کا بدلہ، ترکی بترکی جواب۔ ردّله الصَاعَ صَاعَین او کال له صاعًا بصاعین: سے دوہرا انتقام لینا، کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ صاعة: دیوان خانہ، بیٹھک، کمرہ استقبال۔

صاغ: ۱۔ صَاغَ ۔صَوْغًا الماءُ: پانی کا زمین میں بیٹھ جانا۔

۲۔ صَاغَ ۔صَوْغًا الشیءَ: چیز کو درست نمونہ پر تیار کرنا۔ الکلمةَ: ایک کلمہ سے خاص وزن پر دوسرا کلمہ بنانا کہتے ہیں۔ صَاغَ الکلامَ: اس نے کلام گھڑ لیا۔ اللّٰهُ فلانًا صِیغَةً حَسَنَةً: فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے پیدا کیا کہتے ہیں۔ صِیغَ علی صِبغَتِهَ: وہ اسکی طبیعت پر پیدا کیا گیا۔ ۔ صِیغَةً و صِیَاغَةً و صَیغُوغَةً الشیءَ: کو پگھلانا، ڈھالنا۔ انْصاغَ انْصِیاغًا: پگھلنا، ڈھلنا۔ الصَوْغُ: (س) کہتے ہیں۔ هو صوغُ اخیه: وہ اپنے بھائی کے ساتھ پیدا ہوا یا اس کے بعد پیدا ہوا اور ان کے درمیان کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ هُما صَوْغَان: وہ پیدائش وغیرہ میں ایک ہی طرح کے ہیں۔ هذا صَوْغُ هذا: یہ اس جیسا ہے۔ الصَوْغَة: اسم المرة کہتے ہیں۔ هو صَوْغَةُ اخیه: وہ اپنے بھائی کے ساتھ پیدا ہوا یا اس کے بعد اور دونوں کے درمیان کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ الصَائِغ (ف) صَاغَةٌ و صُیَّاغ وصُوَّاغ: زرگر، سنار کہتے ہیں۔ هو من صاغَة الکلام: وہ خوبصورت انداز سے لکھنے والا ہے۔ الصِیغَة جمع صِیَغ: نوع، اصل کہتے ہیں۔ هو من صیغَةٍ کَرِیْمَةٍ: وہ شریف الاصل ہے (کہتے ہیں۔ صیغَةُ الامر کذا و کذا: امر کی شکل اس طرح اور اس طرح ہے) تصویر ... سونے چاندی وغیرہ کے

زیورات (عام زبان میں) الصِیاغة: زرگری، سنار کا پیشہ۔ الصَوَّاغَ والصَیَّاغ والصَیِّغ: جھوٹا، نمک مرچ لگا کر بات کرنے والا۔ المَصَاغ: ڈھالے ہوئے زیورات۔

۳۔ صَاغَ ۔صَوْغًا له الشرابُ: کے لئے مشروب کا خوشگوار ہونا صحت بخش ہونا۔

○ صَاغَ ۔صَوْغًا و صِیَاغَةً ہ: کو بنانا، ڈھالنا، تخلیق کرنا۔ (قاعدہ، قانون) بنانا، وضع کرنا (لفظ) گھڑنا، وضع کرنا (جھوٹ) گھڑنا، تراشنا، ایجاد کرنا، اختراع کرنا۔ صَاغَ الذهب والفضة: زرگری کرنا۔ صَوْغ: بنانا، ڈھالنا، تخلیق کرنا۔ صیغة: بنانا، ڈھالنا، تخلیق کرنا۔ جمع صِیَغ: شکل، بیرونی شکل، انتخاب الفاظ، اظہار مفہوم کے لئے الفاظ کا استعمال، متن) روایت، بیان (مراسلہ معاہدہ وغیرہ کا) فارمولا، زیورات، سونے چاندی کے زیور، شکل (گرامر میں) صیغة الفاعل: فعل معروف۔ صیغة المفعول: فعل مجہول۔ بصیغةٍ حاسِمَة: فیصلہ کن شکل میں، غیر مبہم الفاظ میں۔ صِیَاغة: ترکیب دینا، سنوارنا، بنانا، مسودہ تیار کرنا، لفظوں میں ادا کرنا، بنانا، تشکیل، ڈھالنا، زرگری۔ مَصَاغ: زیورات، جواہرات، سونے چاندی کی اشیاء۔ صائغ جمع صُیَّاغ و صاغة و صُوَّاغ: زرگر، سنار، جوہری۔ مَصُوغات: سونے چاندی کے زیورات، جواہرات، زیورات۔ صاغ: باترتیب، ٹھیک، مناسب، صحیح سالم، اچھی حالت میں، معمول کے مطابق، باقاعدہ، فوج اور پولیس میں کیپٹن اور میجر کا درمیانی) عہدہ، بحریہ میں لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ کمانڈر کے درمیان کا عہدہ۔ عُمْلَةٌ صاغ: معیاری نظام زر۔ عِرش صاغ: معیاری۔ غِرش (سکہ مصری) صاعقول اغاسی: (ترکی لفظ) مصر میں کیپٹن اور میجر کے درمیان کا فوجی عہدہ۔

صاف: ۱۔ صَافَ ۔صُوفًا عن کذا: سے انحراف کرنا۔ السهمُ عن الهدف: تیر کا نشانہ سے ہٹ جانا۔ أصافَ هُ: کو جھکانا، مائل کرنا۔

۲۔ صَافَ ۔صُوفًا و صَوَفًا و صَوِف یَصْوَف صَوَفًا الکبشُ: مینڈھے کا بہت اون والا ہونا صفت أَصْوَف۔ الصُوف جمع اصواف للشاء: اون۔ اس کے ایک قطعہ کو صُوفة: کہتے ہیں۔ اخذه بصوف رقبته: اس نے اسے زبردستی پکڑ لیا۔ اعطاه ایاه بصوف رقبته: اس نے اس کو مفت دیا یا سارا دیدیا۔ اس سے مثل ہے۔ خَرْقَاءُ وجدت صُوفًا: بے وقوف عورت کو اون مل گئی۔ مطلب یہ کہ بیوقوف کو مال مل جائے تو وہ اسے ضائع کر دیتا ہے۔ عوام کہتے ہیں۔ صوفُه حمراء: والزامات کا نشانہ ہے، اس کی طرف فوراً بدگمانی کا رخ ہو جاتا ہے۔ الصَوَّاف: اون فروش۔ الصاف والصافِیّ والأَصْوَف والصائف: اونی اون دار۔ الصَوْفان م صَوفانة: جس پر بہت اون ہو۔ الصَوف و الصُوفانی: جس پر بہت اون ہو۔ جُبَّةٌ صَیِّفَةٌ: بہت اون والا جبہ۔

۳۔ صَوَّفَ هُ: کو صوفی بنانا۔ تَصَوَّفَ: صوفی ہو جانا، صوفیوں جیسے اخلاق اختیار کرنا۔ الصُوفِیَّة: عبادت گزاروں کی جماعت۔ واحد الصُوفیّ: مسلمانوں کے نزدیک صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ سے متعلق رہے جس میں اعلیٰ درجہ کا خلوص اور حقائق کے ادراک کی استعداد ہو۔

۴۔ الصُوفان واحد صوفانة: ایک نرم خشک چیز جو لکڑی کے اندر ہوتی ہے اور جلد آگ پکڑتی ہے۔ فُطْرُ الصُوفان: سماروخ جو درخت کے تنے پر اگتی ہے اور اس سے صوفان نکالا جاتا ہے۔

○ صُوف جمع أَصْواف: اون۔ صوفی: اون کا۔ اونی، صوفی۔ صوفیة: صوفی طریقہ زندگی۔ الصُوفیة: اسلامی تصوف، روح اور خالق کے ارتباط کا عقیدہ۔ صُوفان: آگ پکڑنے والی کوئی سوکھی چیز۔ صوفانة: آگ پکڑنے والی کوئی سوکھی چیز۔ صواف: اون کا تاجر۔ التصوف: صوفیہ، اسلامی تصوف، روح اور خالق کے ارتباط کا عقیدہ، صوفی طرز زندگی۔ المتصوفة: صوفی لوگ، عارفین باللہ۔ صوفیا: بلغاریہ کا دارالحکومت۔

صاق: صَاقَ الدابةَ: جانور ہانکنا۔ الصاق والصُوق والصَوِیْق: دیکھئے الساق والسوق والسویق (ساق، پنڈلی، تنہ) سَوْق: ہانکنا۔ سویق: ستو)

صاك: صَاكَ ۔صَوْكًا به الزعفرانُ والمِسكُ ونحوهما: سے زعفران یا مشک وغیرہ کا چپکنا۔ تَصَوَّكَ فی رجیعه و بر جیعه: اپنے گوبر سے لتھڑنا۔

صال: ۱۔ صَالَ ۔صَوْلاً و صَوْلةً علیه: پر کود پڑنا۔ صَوْلاً و صِیَالاً و صَالاً و صُوُولاً و صَیَلانًا و مَصَالةً علیه: پر حملہ کر کے مغلوب کرنا۔ صَاوَلَ مُصَاوَلَةً وصِیالاً و صِیالةً هُ: ایک کا دوسرے پر کود پڑنا، ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ تَصَاوَلا: ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا، کود پڑنا۔ الصَوْلَة: سطوت، غلبہ، حملہ کہتے ہیں۔ لَقِیتُهُ اوّلَ صَوْلةٍ: میں اسے

پہلی دفعہ ملا۔ الصؤول من الرجال: لوگوں کو مار پیٹ کرنے والا، ان سے گستاخی کرنے والا۔

۲۔ صِیلَ لَهُ الامرُ: اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لئے کوئی معاملہ مقدر کیا جانا۔

۳۔ صَوَّلَ البیدرَ: کھلیان کے اطراف میں جھاڑ دو دینا۔ الشیءَ: کو دھونا، جیسے چونے کو دھونا، پانی میں ڈال کر صاف کرنا، جیسے گیہوں، کو صاف کرنا۔ صُوَّلة الحنطة: پانی میں صاف کیا ہوا گیہوں۔ الصُّوالة: کھلیان کے اطراف کا کوڑا کرکٹ، کوڑا کرکٹ جو غلہ کے دھونے سے نکلتا ہے۔ المِصوَل جمع مَصاوِل: برتن جس میں کوئی چیز صاف کرنے کے لئے بھگوئی جائے۔ المِصوَلة: خرمن صاف کرنے کی جھاڑو۔

◌ صال - صَولاً و صَولةً و صِیالاً علی: پر کودنا، چھلانگ لگانا، پر حملہ کرنا۔ صَوَل ◌ (سونا، گیہوں وغیرہ) کو پانی سے دھونا۔ صاوَلَ هُ: سے مقابلہ کرنا۔ صَولة جمع صَولات: حملہ، طاقت، ظلم، جور و استبداد، ظلم و جور، جور و جبر۔ صَول: (ترکی میں) سارجنٹ، میجر (انگریزی میں) ٹیکنیکل سارجنٹ۔ صَول تعلیم: ماسٹر سارجنٹ۔ صول تعیین: کوارٹر ماسٹر سارجنٹ۔ صَولَجان جمع صَوالِجة: خمیدہ سرے والا عصا، پولو موگرا، عصائے شاہی، عصائے حکومت۔

صام: ۱۔ صَامَ - صَوماً و صِیاماً: روزہ رکھنا، صائم روزہ دار جمع صائمون و صُوّام و صُوَّم و صُیَّم و صِیام۔ صَامَ الشَّهرَ: مہینہ میں روزے رکھنا۔ صَوَّمَ هُ: کو روزہ رکھوانا۔ اصطَام: روزہ رکھنا۔ الصَّوم: (مص) جمع اَصوام: کام سے رکنا، مقررہ اوقات میں کھانے پینے سے رکے رہنا، روزہ دار، مفرد و جمع کے لئے یکساں کہتے ہیں۔ هُوَ صَوم وهِیَ صَوم وهم صَوم: وہ مرد روزہ دار ہے۔ وہ عورت روزہ دار ہے وہ لوگ روزہ دار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ عند المسیحیین: (عیسائیوں میں) آدھی رات سے دوپہر تک کھانا ترک کرنا، ان کا یہ کہنا کہ النصرانی فی صومه کا معنی ہے نصرانی اس کی بیعت میں ہے۔ شهر الصوم: رمضان کا مہینہ۔ الصَّوام من الاراضی: خشک بے آب زمین۔ الصَّومان جمع صَیامی: روزہ دار۔ الصّائم: کھانے پینے سے رکا رہنے والا کہتے ہیں۔ یَوم صائمٌ: دن جس میں روزہ رکھا جائے۔ ماءٌ صائمٌ: ٹھہرا ہوا، رکا ہوا پانی۔ الصّائمة من الخیل: بغیر چارہ کے کھڑا ہوا گھوڑا۔ الصَّوّام: بہت روزے رکھنے والا کہتے ہیں۔ هو صَوّام قَوّام: وہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو کھڑا رہتا ہے۔

۲۔ صَامَ - صَوماً و صِیاماً النهارُ: دوپہر کا وقت ہونا۔ ت الشمسُ: سورج کا نصف النہار پر ہونا۔ ـــ ت الریحُ: ہوا کا ٹھہرنا۔ الصّائمة من السکاکین: کند چھری۔ من البکرات: نہ پھرنے والی چرخی۔ مَصَام و مَصَامَة الفرس: گھوڑے کے کھڑے ہونے کی جگہ کہتے ہیں۔ جئتُهُ والشمسُ فی مَصَامِها: میں اس کے پاس آیا تو سورج نصف النہار پر تھا۔

۳۔ صَامَ - صَوماً و صِیاماً و اصطَامَ النعامُ: شتر مرغ کا بیٹ کرنا۔ صوم النعام: شتر مرغ کی بیٹ

۴۔ صَامَ - صَوماً و صِیاماً و اصطام مَنِیّتَهُ: موت چکھنا۔

۵۔ صَومَعَ الشیءَ: کو جمع کرنا۔

۶۔ صَومَعَ البناءَ: عمارت بلند کرنا۔ الصَّومَع جمع صَوامِع: پہاڑ یا بلند جگہ جس پر راہب و عبادت گزار تنہائی کی خاطر رہتا ہو۔ راہب کی کٹی، گرجا۔ الصَّومَعَة جمع صَوامِع بمعنی الصَّومَع، پہاڑ کی چوٹی۔ (ح) عقاب۔

۷۔ الصَّومَعَة جمع صَوامِع: ایک قسم کی ٹوپی۔

۸۔ صَومَلَ الرجُلُ: بھوک سے کھال کا خشک ہو جانا۔

◌ صَامَ - صَوماً و صِیاماً عن: سے باز رہنا، پرہیز کرنا، -کھانے پینے اور مجامعت سے پرہیز کرنا، روزہ رکھنا۔ صوم: باز رہنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، روزہ رکھنا، روزہ۔ الصوم: ماہ رمضان میں روزے رکھنا۔ الصوم الکبیر: بڑا روزہ، ایسٹر کا چلہ۔ عیدُ صوم الغفران: یوم کفارہ (عیسائیت میں) صِیام: روزہ رکھنا، روزہ۔ صائم جمع صائمون و صُوَّم و صِیَّم و صِیام: روزہ دار۔ الصُّومال: صومالیہ۔ صُومالی: صومالیہ کا باشندہ، صومالیہ کا، صومالی۔

صان: ۱۔ صَانَ - صَوناً و صِیاناً و صِیانةً و اصطَانَ اصطِیاناً هُ: کی حفاظت کرنا۔ صفت مفعولی مَصُون و مَصوُون (مصوُون نادر الاستعمال ہے) ـــ الثوبَ او العِرضَ: کپڑے یا عزت کو داغدار ہونے سے بچانا۔ تَصَوَّنَ هُ: کو بچانے کا دکھاوا کرنا۔ و تصاوَن من العیب: خود کو عیب سے بچانا۔ الصُّوان والصِّوان و الصُّوان و الصِّیان و الصُّیان و الصِّیان جمع اَصوِنَة: الماری، صندوق۔ المَصَان و المِصوَان: کمان وغیرہ کا غلاف۔ التَّصوِینَة: گھر کی چہار دیواری، باغ کی چہار دیواری

(عام زبان میں)

۲۔ الصَّوّانة جمع صَوّان (ط ا) چقماق کا پتھر، ڈبر، چوتڑ۔

◌ صَانَ - صَوناً و صِیانةً ہ کو محفوظ رکھنا، کا تحفظ کرنا، کو بچانا، کو بچائے رکھنا، کو رکھنا، رہنے دینا، کو برقرار رکھنا، کو چالو رکھنا۔ ہ/ ہ/ عن: کو سے محفوظ رکھنا، کی حفاظت کرنا، کو سے بچانا۔ ہ/ ہ/ عن: کا کے خلاف دفاع کرنا۔ تَصَوَّنَ: اپنی عزت برقرار رکھنا، پاکدامن رہنا (خاتون) کا باعصمت رہنا۔ اپنے آپ کو الگ رکھنا، تنہائی میں رکھنا، اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا۔ صون: پاکدامنی، عزت مندی، دفاع، حفاظت، محفوظ رکھنا، برقرار رکھنا۔ صَوّان واحد صَوّانة: چقماق (granite) ایک عمارتی پتھر۔ اَدَوات صَوّانیة: چقماق کے اوزار۔

صوّ: الصَّوّ: خالی کہتے ہیں: اناءٌ صَوٌّ: خالی برتن۔ الصُّوَّة جمع صُوًی: وجمع الجمع اَصْواء: آواز بازگشت، ٹیلہ، پہاڑی، نشان راہ کا پتھر۔ ـ البحریة: (سمندر میں راستہ بنانے یا اس کے خطرناک حصوں کی اطلاع دینے والی وہ چیز جو سمندر میں تیرتی رہتی ہے، تیرونا، پیراک، پیپا۔ الصُّوَّة البحریة: کا دوسرا نام۔ عَوّامة اور شَمَندُورة: ہے۔ الصُّوی والاَصواء: قبریں۔

◌ صُوَّة جمع صُوًی: نشان راہ کا پتھر۔ صَوِیَ - صُوِیّاً وَ صَوِیَ - صَوًی و صَوًی: بالکل سوکھ جانا، مرجھانا، مرجھاجانا۔ صَوَی: آہستہ آہستہ نکلنا، چیں چیں کرنا، چوں چوں کرنا، چہچہانا۔

صوی: صَوَی - صُوِیّاً و صَوًی تصویةً و اصوَی اصواءً النخلُ: درخت کھجور کا خشک ہو جانا، صفت: صَوِیّ و صاوٍ۔ ـ الضرعُ: تھن کا خشک ہو جانا صفت صاوٍ۔ صَوِیَ - صَوًی النخلُ: کھجور کے درخت کا خشک ہو جانا صفت صَوِیّ و صاوٍ۔ الضرعُ تھن کا خشک ہو جانا صفت صاوٍ - الرجُلُ قوی ہونا۔ ابو صُوَیّ او الصَّرّارة (ح) ایک پرندہ جس کی آواز سے سانپ ڈرتے ہیں۔

صاب: ۱۔ صَابَ - صَیباً: درست ہونا صفت صائب - هُ السهمُ: کو تیر لگنا۔ سَهمٌ صَیُوبٌ جمع صُیُوب: نشانہ پر لگنے والا تیر۔

۲۔ الصُّیّاب والصُّیّاب و الصُّیّابة: خالص، ہر عمدہ شے کہتے ہیں۔ هو من صُیّابهم: یعنی وہ ان کے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ الصُّیّابة: بمعنی الصُّیّاب: (کہتے ہیں۔ هو من صُیّابتهم: وہ ان کے بہترین

لوگوں میں سے ہے)۔ سردار۔ هو صُيَّابة قومه وہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ صُيَّابة القوم: قوم کی جماعت

صاح: ا۔ صَاحَ ـِ صَيْحًا و صَيْحَةً و صِيَاحًا و صَيَحَانًا: زور سے چیخنا۔ به کو پکارنا، آواز دینا۔ ــــ عليه کوڈانٹنا ــــ ت عصافيرُ بطنه: بھوکا ہونا۔ صِيحَ بهم: وہ ڈر گئے۔ فيهم: ہلاک ہو گئے۔ صَيَّحَ: بہت چیخنا۔ صَايَحَ القومَ: ایک دوسرے کو پکارنا۔ صَايَح به: کو پکارنا، آواز دینا۔ تَصَايَحَ القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے کو پکارنا۔ الصَّيْح (مص) کہتے ہیں۔ غَضِبَ من غير صيح ولا نَفْر وہ یونہی غضبناک ہوا۔ الصَّيْحَة: صاح کا اسم مرة، عذاب الٰہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا، اچانک غارت۔ الصَّائِحَة: صَائِح: کا مونث نیز صيحة النياحة تجہیز و تکفین پر عورتوں کا بین، ماتم، گریہ وزاری۔ الصَّيَّاح: بہت چیخنے والا۔

۲۔ صَاحَ ـِ صَيْحًا و صَيْحَةً و صِيَاحًا و صَيَحَانًا العنقودُ: تر خوشے کا بڑھنا۔

۳۔ صَيَّحَ ت الريحُ او الشمسُ البقلَ: ہوا یا سورج کا سبزی کو سکھا دینا۔ تَصَيَّحَ البقلُ: سبزی کے اوپر کے حصہ کا خشک ہو جانا۔

۴۔ صَيَّحَ الشيءَ: کو توڑنا، پھاڑنا۔ تَصَيَّحَ: پھٹنا، چٹخنا۔ تَصَايَحَ جفنُ السيف: تلوار کی نیام کا پھٹ جانا، چیخ جانا۔ انْصَاحَ: پھٹنا، چٹخنا۔ الفجرُ والبرقُ: صبح اور بجلی کا ظاہر ہونا۔ ت الأرضُ: زمین کے کچھ حصے کا روئیدگی سے ڈھک جانا۔

صَاحَ ـِ صَيْحًا و صِيَاحًا: چلانا، چیخنا، بلبلا اٹھنا، چیخ مارنا، ککڑوں کوں کرنا، بانگ دینا۔ صاح صَيْحَةً: چیخ مارنا۔ ب: کو پکارنا۔ ــــ على او في: سے چلا کر کہنا۔ صَيَّح: زور سے چلانا، دھاڑنا، گرجنا، چیخنا، چلانا۔ تَصَايَح: ایک دوسرے کو پکارنا، چلانا، شور مچانا، چیخ پکار کرنا، شور وغل کرنا۔ صَيْح: چیخنا، چلانا، شور وغوغا، چیخ پکار۔ صَيْحَةٌ جمع صَيْحَات: چیخنا، چلانا، شور وغوغا۔ صيحةُ الحرب: جنگی چیخ وپکار۔ أَرْسَلَ صَيْحَاتٍ: چیخیں مارنا۔ صَاحَ صَيْحَةً: چیخ مارنا۔ علی صَيْحَةٍ: جہاں تک چیخ وپکار پہنچ سکے۔ ذَهَبَ صيحةً في وادٍ: صدا بصحرا ہونا۔ صِيَاح: چیخنا، چلانا، شور وغل، پرندے کی چیخ۔ صَيَّاح: چیخنے والا، اونچی آواز والا، شور مچانے والا، پر خروش، گلا پھاڑ پھاڑ کر کہنے والا۔ تصايح: شور مچانا، غور شور وغل، گرج، چیخ، چیخ وپکار۔

صاد: ا۔ صَادَ ـِ صَيْدًا الطيرَ: پرندے کا شکار کرنا۔

صفت صائد۔ فُلَانًا: کے لئے شکار کرنا۔ ــــ المكانَ: جگہ میں شکار کرنا۔ أَصَادَهُ: کو شکار پر اکسانا۔ تَصَيَّدَ الطيرَ: پرندے کا شکار کرنا۔ اصْطَادَ الطيرَ: پرندے کا شکار کرنا۔ المكانَ: جگہ میں شکار کرنا۔ الصَّيْد (مص) شکار۔ الصَّيَّاد: شکاری۔ الصَّيُودُ جمع صِيد و صُيُود: شکاری کہتے ہیں۔ كلبٌ صَيُود و صقرٌ صَيُود: شکاری کتا اور شکاری باز یا شکرا یا شاہین۔ ــــ من النساء: اپنے خاوند سے حیلے بہانے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے والی عورت۔ المَصِيد: پکڑا ہوا شکار۔ المِصْيَد والمِصْيَدَة والمَصْيَدَة و المَصِيدَة جمع مَصَايِد: جال، گڑھا پھندا، دام، شکار کرنے کی کوئی چیز یا سامان۔ المَصَاد والمُصْطَاد و المُتَصَيَّد: جائے شکار، شکارگاہ۔

۲۔ صَادَ ـِ صَيَدًا زيدًا: زید کو ٹیڑھی گردن والا بنانا۔ صَيِدَ يَصْيَدُ صَيَدًا: ٹیڑھی گردن والا ہونا۔ اَصَادَ البعيرَ: اونٹ کو اذیت دینا، اسکی گردن کی کجی کا علاج کرنا (ضد) الأَصْيَد م صَيْدَاء جمع صِيد: ٹیڑھی گردن والا اونٹ، تکبر سے سر کو بلند کرنے والا، بادشاہ (ح) شیر۔ الصَّاد: (طب) اونٹ کی ایک بیماری جس کی وجہ سے اسکی ناک سے ریزش بہتی رہتی ہے اور وہ اپنا سر اونچا رکھتا ہے۔ شیر۔ بعيرٌ صاد: بیماری سے سر اونچا رکھنے والا اونٹ۔ ناقةٌ صادَةٌ: بیماری سے سر اونچا رکھنے والی اونٹنی۔ الصَّيَد (مص) و الصِّيد: اونٹ کی مذکورہ بالا بیماری۔ الصَّيْدَاء الأَصْيَد کا مونث۔ الصَّيَّاد (ح) شیر۔

۳۔ الصَّاد: حرف تہجی۔ جمع صِيدَان: پیتل، تانبا۔ الصَّيْدَاءُ: کنکر، پتھری۔ ارضٌ صَيْدَاء: سخت زمین۔ الصَّيُود من النساء: بدخلق عورت۔ الصَّيْدَان: سونا، تانبا۔ صَيْدَانُ الحصى: چھوٹے کنکر۔ الصَّيْدَانَة: بھوت ــــ من النساء: بدخلق عورت، بہت باتونی عورت۔

۴۔ الصَّيْدَلَة: دوا فروشی۔ الصَّيْدَلي و الصَّيْدَلاني: دوا فروش۔ الصَّيْدَلِيَّة: دواؤں کی دوکان۔

۵۔ الصَّيْدَن: مضبوط عمارت، چاندی کی اینٹ، تنگ چادر (ح) بجو۔ (ح) لومڑی، بادشاہ، عطر فروش، زمین کے اندر گھر بنانے اور اس کو لوگوں سے چھپا کر رکھنے والا ایک جانور۔ الصَّيْدَنَانِي (ح) لومڑی اور مذکورہ جانور کی مضبوط عمارت۔

صادَ ـِ صَيْدًا ه: کو شکار کرنا، مچھلی پکڑنا۔ تَصَيَّدَ ه: کو شکار کرنا، پکڑنا۔ اصْطَادَ: بمعنی صَادَ۔ اصطاد في الماء العَكِر: گندے پانی میں مچھلیاں پکڑنا۔ صَيْد: شکار کرنا، شکار، مچھلی پکڑنا۔ صيدُ السمك: مچھلی پکڑنا۔ من صَيدِ خيالِه: اس کے خواب وخیال میں، اس کے تصور کی پیداوار۔ صَيَّاد جمع صيادون: شکاری مچھلی پکڑنے والا۔ صياد السمك: مچھیرا، مچھلی پکڑنے والا، رام چڑیا۔ صَيْدَا: لبنان کا ایک شہر۔ مَصْيَدَة جمع مَصَايِد: ماہی گاہ۔ صَيْدَلَة: عطار کا پیشہ، دوا سازی، عطاری، علم دوا سازی۔ صَيْدَلي جمع صَيَادِلَة: دوا فروش، دوا ساز، عطّار۔ صَيْدَلاني: دوا ساز، دوا فروش۔ عطار۔ صَيْدَلِيَّة: دواؤں کی دکان، عطار خانہ۔

صار: ا۔ صَارَ ـِ صَيْرًا و صَيْرُورَةً و مَصِيرًا: واپس ہونا، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا جیسے صار زيدٌ غنيًا: زید مفلسی کی حالت سے تمول کی حالت میں منتقل ہو گیا یعنی امیر ہو گیا، منتقل ہونا۔ الى كذا او الى فلان: کسی چیز یا شخص تک پہنچنا (یہ افعال ناقصہ میں سے ہے) صَيَّرَ تَصْيِيرًا و أَصَارَ إِصَارَةً ه: کو ایک حالت یا شکل سے دوسری حالت یا شکل میں بدل دینا۔ تَصَيَّرَهُ: سے مشابہ ہونا۔ الصَّيْر (مص) کام کا انجام ونتیجہ۔ الصِّير: بمعنی الصَّيْر چیز کا کنارہ یا طرف، جب کوئی شخص کام ختم کرنے کے قریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں۔ فلانٌ على صِيرِ الأمر ـ الصَّائِرَة: خشک گھاس۔ الصَّيُّور والصَّيُّورَة: کام کا انجام ونتیجہ۔ المَصِير (مص) جمع مَصَايِر: کام کا انجام ونتیجہ، وہ جگہ جہاں پانی پہنچتا ہے۔

۲۔ صَارَ ـُ صَوْرًا ه: کو کاٹنا۔ الشيءَ: کو روکنا۔ الصِّير: دروازہ کی دراڑ۔ الصِّيَار: گایوں کا گلہ۔ الصِّيَارَة و الصِّيرَة جمع صِيَر و صِيَر: گائے یا بکریوں کا باڑہ۔ الصَّيْر: قبر۔

۳۔ الصِّير: چھوٹی نمکین مچھلیاں، یہودیوں کا پادری۔ الصِّيَار: چنگ کی آواز۔ الصَّيِّر: جماعت۔ الصَّيُّور: عقل ورائے۔

صَارَ ـِ صَيْرًا و صَيْرُورَةً و مَصِيرًا ه: کوئی چیز ہو جانا۔ (مضارع کے ساتھ)، کو شروع کرنا، تک جانا، کسی ایسی صورت حال میں ہونا جہاں کسی ایسے نقطہ تک پہنچنا جہاں، واقع ہونا، ہونا، عمل میں آنا۔ ــــ لِ: کے حصہ میں آنا، پر پڑنا، واقع ہونا۔ ــــ الى او عند: کے پاس جانا۔ الى: کسی جگہ پہنچنا۔ الى: پر ختم ہونا۔ الى: کام انجام ہونا، نتیجہ ہونا۔ صار به الى: کو تک لے جانا۔ يُصَارُ الى: تک جانا، کوئی آخرکار کے ساتھ، ختم ہوگا۔ صَيَّرَهُ ه: کو کچھ بننے پر اکسانا،

کو میں بدلنا۔ صِیر: دروازہ کی دراڑ۔ چھوٹی، نمکین مچھلی۔ صَیرُورَۃ: ہونا، ترقی یافتہ حالت، نتیجہ۔ مَصِیر: ترقی یافتہ حالت، (کام کی) رفتار جمع مَصَایِر: پہنچنے کی جگہ، نتیجہ، تقدیر، قسمت۔ نصیب نصیبہ، مقدر، انجام، حشر، زندگی۔ تقریر المصیر: حق خود اختیاری۔ مصیرُ کلِّ حَیٍّ: ہر زندہ کا طریقہ یا دستور۔

صیص: الصِیْصَۃ والصِیْصِیَۃ جمع الصَیاصِی: جولاہے کا کوچ جس سے وہ تانا بانا درست کرتا ہے۔ بننے کی سلائی، مرغ کا خار، ہرن اور گائے کا سینگ، کھجور توڑنے کا دستہ، قلعہ۔ گڑھی اور پناہ لینے کی جگہ۔

صاع: صَاعَ ـِ صَیعًا و أَصَاعَ الغنم: بکریوں کو متفرق کرنا۔ ــ القومَ: ایک دوسرے کے خلاف اکسانا۔ تَصَیَّعَ الماءُ: پانی کا اضطراب کرنا، جوش مارنا۔ انصاع الرجُلُ: تیزی سے واپس لوٹنا۔ ــ الطیرُ: پرندے کا فضا میں چڑھنا۔

صاف: ١۔ صَافَ ـِ صَیفًا و تَصَیَّفَ بالمکان: کسی جگہ موسم گرما میں اقامت کرنا۔ ــ واصَّیَّفَ المکانَ: کسی جگہ موسم گرما گزارنا۔ صِیفَ المکانُ او الرجُلُ: کسی جگہ یا آدمی پر موسم گرما کی بارش ہونا۔ صفت مفعولی مَصِیفٌ و مَصْیُوفٌ صَیَّفَ بالمکان: کسی جگہ موسم گرما میں قیام کرنا۔ المکانَ: کسی جگہ موسم گرما میں رہائش پذیر ہونا کہتے ہیں۔ هذا الطعام یصُیِّفنی: یہ کھانا مجھے موسم گرما کے لئے کافی ہے۔ صُیِّفَ المکانُ او الرجُل: کسی جگہ یا آدمی پر موسم گرما کی بارش ہونا۔ صفت مفعولی۔ مُصَیَّف۔ صَایَفَ مصایفۃً و صِیافاۃً: سے موسم گرما کے لئے معاملہ کرنا۔ (جیسے الشهر سے مُشاهرۃ) أصَافَ اصافۃً القوم: موسم گرما میں داخل ہونا۔ ت الدابّۃَ: جانور کا موسم گرما میں بچے دینا۔ اصْطَافَ اصْطِیَافًا بالمکان: کسی جگہ موسم گرما میں اقامت کرنا۔ الصَیفُ جمع أَصْیَاف: موسم گرما۔ ٢١ جون سے ٢١ اپریل تک کا چار موسموں میں سے ایک موسم (شام، لبنان، عراق، اردن) الصَیفَۃ جمع صِیَف: موسم گرما، یہ صیف سے اخص ہے۔ الصَیْفِیّ: موسم گرما میں پیدا ہونے والا، موسم گرما میں اگنے والی گھاس (ز) موسم گرما میں چنے، کاٹے جانے والے اکٹھے کئے جانے اور توڑے جانے والے پھل جیسے انجیر، انگور، سیب، ناشپاتی وغیرہ۔ والصَیِّف: موسم گرما میں اگنے والی گھاس۔ والصَیِّفَۃ: موسم گرما کی بارش کہتے ہیں۔ أصابتنا صَیِّفَۃٌ غزیرۃٌ: موسم گرما میں ہم پر کثرت سے بارش ہوئی۔ الصَّاف: گرم۔ الصَائِف: گرم کہتے ہیں۔ صَیفٌ صائف: بہت گرم موسم گرما (جیسے کہا جاتا ہے۔ لیلٌ لائِل: تاریک رات، اندھیری رات)۔ الصائفۃ جمع صَوَائِف۔ الصائف کا مونث، موسم گرما کا وقت، گرمی کے موسم کی جنگ۔ صائفۃُ القوم: قوم کی موسم گرما کی خوراک۔ المصِیف و المُتَصَیَّف و المُصْطَاف: موسم گرما گزارنے کی جگہ۔ ارضٌ مِصْیَاف جمع مَصَایِیف: وہ زمین جس کی سبزی دیر سے نکلے اور وہاں موسم گرما کی بارش بکثرت برسے۔ المَصَایِیف: موسم گرما میں پیدا ہونے والے بچے۔

٢۔ صَافَ ـِ صَیفًا و صُیُوفَۃ السهُم عن الهدَف: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ ــــ عَنِّی وجْهُهُ: اس کا چہرہ میری طرف سے مڑ گیا۔ أَصَافَ اصافۃً اللّٰهُ عنه الشرَّ: اللہ تعالیٰ کا کسی سے شر کو دور کرنا۔ المَصِیف: ندی کا موڑ۔

٣۔ أَصَافَ اصَافۃً: بڑھاپے میں شادی کرنا، یا بڑھاپے میں اولاد ہونا۔ رجُلٌ مِصْیَاف جمع مَصَایِیف: وہ مرد جو بالوں کے خاکستری ہونے تک شادی نہ کرے۔

○ صَافَ ـِ صَیفًا: موسم گرما والا ہونا۔ ہ/ب: میں موسم گرما گزارنا۔ صَافَ الزمانُ أم شتاً: ہر وقت، سب حالات میں۔ صَیَّفَ، تَصَیَّف و اصطاف بمعنی صَافَ۔ صَیْفِی: موسم گرما کا یا سے متعلق۔ توقیت صَیْفِی: گھڑیاں آگے کرنے کا وقت۔ مَصِیف جمع مَصَایِف: گرمائی رہائش گاہ، گرمیاں گزارنے کی جگہ، آرام کرنے کا مرکز، تعطیلاتی کیمپ۔ اصطیاف: گرمیاں گزارنا۔ صائفۃ: موسم گرما (کا وقت)۔ مُصْطَاف: گرمیاں گزارنے کی جگہ جمع مصطافون: چھٹیاں گزارنے والے، موسم گرما میں کسی جگہ آنے والے۔

صیق: الصِیق: پسینہ، بدبو، آواز۔ جمع صِیقَان: چڑیا۔ والصِیقۃ جمع صِیَق: ہوا میں چکر لگانے والا غبار۔

صاك: صَاكَ ـِ صَیْکًا به الطیبُ او الدمُ: سے خوشبو یا خون کا چمٹنا۔

صیل: صِیْلَ لهُ کذا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لئے کچھ مقرر کیا جانا۔

صیم: الصِیَمُّ: سخت مانگ، زبردست مانگ۔

صین: الصَوَانی واحد صینیۃ: چینی برتن، چین کے برتن۔ الصِینِیَّۃ: سینی، کشتی، ٹرے۔ الصیوان جمع صَوَاوِین: بڑا خیمہ، سر پردہ، کپڑے کا خیمہ۔

○ الصین: چین (ملک)، چینی۔ بلاد الصین: چین۔ صینی: چین کا، چینی (صفت واسم) چینی کے برتن۔

ض

ض: تلفظ ضاد۔ حروف تہجی کا پندرہواں حرف اور حروف ابجد میں یہ عدد ۸۰۰ کے برابر ہے۔

ضنب: الضِنب (ح): اچھلی، موتی۔

ضأد: ا۔ ضَأَدَ ـضَأْدًا ہُ: اپر دشمنی میں غالب آنا۔

۲۔ ضَئِدَ ضُؤَادًا: کوزکام ہونا۔ اضأدَ إضآدًا ہُ: کوزکام میں مبتلا کرنا۔ الضُؤْد و الضُؤُد و الضُؤُودَة: زکام۔ المَضْؤُود: زکام زدہ۔

ضاد: حرف عربی کا مخصوص حرف ہے۔ لہٰذا اھلُ الضاد: عربی بولنے والے، عرب۔ ابناءُ الضاد: عربی بولنے والے، عرب۔ اقطارُ الضاد: عربی بولنے والے ممالک۔ لغة الضاد: عربی زبان۔

ضأز: ضأزَ ـضأزًا و ضأزاًہُ: ظلم و زیادتی کرنا۔ ـ ہُ حقه: کا حق کم کرنا۔ قِسمَةٌ ضُؤْزَى و ضأزَى و ضِئزَى: ناقص تقسیم۔ الضَيَّاز: معاملات میں کود پڑنے والا۔ الضُوزَة: حقیر آدمی۔

ضأض: ضأضأ ضأضأةً و ضُوضًا و ضَوْضاةً القومُ في الحرب: لڑائی میں شور کرنا۔ الضَأضاء و الضَوْضَاء و الضَوْضَى: جنگ میں لوگوں کا شور۔ الضُؤضُؤ (ح): ایک پرندہ جس کے پروں پر رنگا رنگ کے نقطے ہوتے ہیں ـــــ الأخيل بھی کہلاتا ہے۔ ـ و الضِئضِئ: جڑ، معدن۔

ضأط: ضَئِطَ ـضَأطًا الرجُل: چلتے ہوئے جسم اور کندھے ہلانا۔

ضأك: ضَئِكَ: کوزکام لگنا۔ الضُؤَاك: زکام۔

ضأل: ضَؤُلَ ـضَآلَةً و ضُؤُولَةً: حقیر ہونا، دبلا ہونا۔ ضاءَلَ شَخصَهُ: خود کو حقیر کرنا۔ تضاءَل: چھوٹا ہونا، کمزور ہونا۔ چھوٹا ہونا۔ ـــــ الشیءُ: سکڑنا۔ إضطال: چھوٹا ہونا، کمزور ہونا صفت مُضطَئِل۔

الضَئِيل جمع ضُؤَلاء و ضِئال و ضَئِيلون: چھوٹا چھوٹا، پتلا، حقیر، کمزور، لاغر۔ الضُئُولة: کمزور، لاغر۔ الضَئِيلَة: مؤنثِ الضَئِيل: پتلا سانپ، حلق کا کوا۔

ضؤل: ضَؤُلَ ـضَآلَةً و ضُؤُولَةً: چھوٹا ہونا، ننھا سا ہونا، بہت کم یا ناکافی ہونا، دبلا، پتلا یا لاغر ہونا، تھوڑا ہونا، معمولی ہونا، چھدرا ہونا، کمزور ہونا، ناتواں ہونا؛ قلیل ہونا، کم ہونا، سمٹنا، گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ جانا، گھٹ جانا، کم ہو جانا، قیمتیں وغیرہ گرنے لگنا، ختم ہونے کے قریب ہونا، سکڑنا، گھٹنا۔ ضآلة، ضِئالة و ضُؤُولة: چھوٹا ہونا، ننھا سا ہونا، بہت چھوٹا باریک یا رقیق ہونا، بہت کم ہونا، معمولی ہونا، ناکافی ہونا، دبلا پتلا یا لاغر ہونا (دبلاپن، لاغری)، کمی، قلت، کمزوری، لاغری، پتلا پن، قلت، گھٹنا، سکڑنا۔ تضاؤل: بمعنی ضآلة۔

ضأن: ا۔ ضَأَنَ ـضَأْنًا الضأنَ: دنبیوں کو بکریوں سے جدا کرنا۔ أضأنَ إضآنًا: بہت بھیڑوں یا دنبیوں والا ہونا۔ الضأن (ح): اسم جنس، بھیڑ، دنبہ۔ الضائِن (فا) جمع ضَأن و ضَان و ضَئِين و ضِئِين: کمزور، ناتواں، کہتے ہیں: رجُلٌ ضائِنٌ: کمزور آدمی۔ (ح): بھیڑ، دنبہ۔ ـــ من الغنم: اون والا بکرا، یا بھیڑ یا مینڈھا۔ الضائِنَة جمع ضَوائِن: الضائن کا مونث۔ الضِئنِيّ: دہی بلونے کی بڑی مشک۔ انضائِنيّ عند المولّدين: بھیڑ یا دنبے کا گوشت۔ (ھمزہ کو نظر انداز کر کے اور یاء کی تخفیف کے ساتھ)۔

۲۔ الضائن جمع ضان و ضئين و ضِئين: ریت کا سفید اور چوڑا قطعہ۔

ضامة: مہرہ بازی۔ ضان (اسم جنس): بھیڑ، مینڈھا۔ ضَانِي: بھیڑ یا بکری کا گوشت (mutton)۔ ضائن: بھیڑ، دنبہ۔

ضأى: ضأى ـضأيًا الرجُل: پتلے جسم والا ہونا۔

ضبّ: ا۔ ضَبَّ ـضَبًّا: چپ ہونا۔ أضَبَّ: چپ ہونا، چیخنا، بولنا (ضد)۔ ـ على الشیءِ: کو چھپانا، پکڑنا، گرفت میں لینا۔ ـ على ما في نفسه: اپنے بھید کو چھپانا۔ دل کی بات پر خاموش رہنا۔ ـ على غِلٍّ في قلبه: دل میں کینہ کو چھپانا۔ الضَبّ و الضِبّ جمع ضِباب: پوشیدہ کینہ۔ کہتے ہیں: رجُلٌ خِبٌّ ضَبٌّ: بات پر قائم رہنے والا، حیلہ جو، بہانہ ساز۔

۲۔ ضَبَّ ـضَبًّا و ضَبِيبًا الريقُ او الدم: تھوک یا خون کا بہنا۔ ـــــ الشفةُ: ہونٹ میں خون بہنے کی بیماری پیدا ہونا۔ أضَبَّ الماءُ او الريقُ: تھوک یا پانی بہنا۔ ـــــ الماءَ او الدمَ: پانی یا خون کو بہانا۔ الضَبّ (طب): ہونٹ کی بیماری جس سے خون بہتا ہے۔ الأضَبّ م ضَبَّاء جمع ضُبّ من الجمال: ہونٹ سے خون بہنے والی بیماری والا اونٹ۔ الضَبِيب (مص): ضبيبُ السَيف: تلوار کی دھار۔

۳۔ ضَبَّ ـضَبًّا الناقةَ: اونٹنی کا دودھ پوری مٹھی سے دوہنا۔ ـ على الشیءِ: پر حاوی ہونا، مشتمل ہونا۔ عوام ضَبَّةً کہتے ہیں۔ ـ عليه: کو مضبوطی سے پکڑنا۔ کہتے ہیں: فلانٌ يضبّ فوه او تضب لثاتهُ بكذا او على كذا: فلاں شخص اس کا سخت حریص ہے۔ ضَبَّبَ على الشیءِ: کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اضب على الامر: کام پر حاوی ہونا۔ ـ على المطلوب: کامیابی کے قریب ہونا۔ ـــــ القوم: کام کے لئے اکٹھے کھڑے ہونا۔ الضَبَّة جمع ضِباب: خوب نچوڑ کر دوہنا۔ (اع): بندوق وغیرہ کا گھوڑا۔ المِضباب: بخیل۔

۴۔ ضَبَّ ـضَبًّا الشیءُ: چیز کا زمین سے چمٹنا۔ الضَبَّة

جمع ضِبَاب: برتن کھولنے کا اوزار۔

۵- ضَبَّ -و ضَبِبَ يَضَبُّ ضَبَابَةً المكانُ: کسی جگہ میں زیادہ گوہ ہونا۔ صفت ضَبِب م ضَبِبَة۔ ضَبَّبَ علی الضَبِّ: گوہ کو بھڑکانا۔ — الباب: دروازہ میں بلی لگانا۔ أَضَبَّ المكانُ: کسی جگہ میں زیادہ گوہ ہونا۔ الضَبّ جمع أَضُبّ و ضُبَّان و ضِبَاب و مَضَبَّة (ح): گوہ، سوسمار، مثل ہے: اعقد من ذنب الضب: یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی گتھی سلجھانا مشکل ہے۔ لفظی ترجمہ: یہ گوہ کی دم سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ عرب کہتے ہیں: لا افعله حتی یرد الضبُّ یعنی میں یہ کام اسوقت تک نہیں کروں گا جب تک گوہ پانی پر نہ آئے۔ ان کے خیال میں تھا کہ گوہ کبھی پانی پر نہیں آتی۔ الضَبَّة جمع ضِبَاب (ح): مادہ گوہ۔ لوہے یا لکڑی کا دستہ جو دروازہ میں لگاتے ہیں۔ ارضٌ مَضَبَّة جمع مَضَاب: وہ زمین جہاں گوہ بکثرت پائے جائیں۔

۶- أَضَبَّ ت الارضُ: زمین کا زیادہ سبزی والا ہونا۔ — الیومُ: دن کا کہر والا ہونا۔ — الشَعرُ: بالوں کا زیادہ ہونا، گھنے ہونا۔ — القومُ فی بغیتهم: لوگوں کا مقصد طلبی میں متفرق ہونا۔ أَضَبُّوا علیه: پر کثرت کرنا۔ أَضَبُّوا لفلان: کی تلاش میں بکھر جانا۔ الضَبَّة جمع ضِبَاب: شگوفہ جو ابھی کھلا نہ ہو۔ الضَبَابَة جمع ضَبَاب: کہر۔

۷- تَضَبَّبَ الصبیُّ: بچہ کا موٹا ہونے لگنا۔ الضَبِیبَة: گھی و کھجور کے شیرہ سے تیار کردہ بچوں کے لئے ایک کھانا۔

۸- الضَبُّ (طب): اونٹ کے سینہ یا قدم کا ورم۔ اونٹ کے اگلے پاؤں کی بیماری۔

○ ضَبَّ -ضَبًّا علی: کو پکڑنا، کو مقفل رکھنا، کو حفاظت سے رکھنا، سنبھال کر رکھنا، کی احتیاط سے نگہبانی کرنا۔ ضَبَّب بمعنی ضَبَّ۔ — ہ: (دروازہ کو) چٹخنی لگانا۔ اَضَبَّ: (دن کا) کہر آلود ہونا۔ ضَبّ جمع ضِبَاب و أَضُبّ و ضُبَّان: چھپکلی۔ ضَبّ: سامنے کا دانت۔ ضَبَّة جمع ضَبَّات و ضِبَاب: دروازہ کی چٹخنی، بلی، کھٹکے کا قفل۔ ضَبَاب: دھند، کہر۔

ضبأ: ۱- ضَبَأَ -ضَبْأً و ضُبُوءًا الرجلُ: زمین یا درخت سے چمٹ جانا۔ صفت ضَبِیءٌ۔ — ہُ بالارض: کو زمین سے چمٹانا۔ — الصائدُ: شکاری کا شکار سے چھپنا اور اس کے لئے داؤں کرنا۔ — الیه: کی پناہ لینا۔ — منه: سے شرمانا۔ أَضْبَأَ الشيءَ: کو چھپانا۔ — علیه: پر خاموش رہنا، کو چھپانا۔ — ما فی یده و علیه: ہاتھ کی چیز کو پکڑے رکھنا۔ اِضْطَبَأَ اِضْطِبَاءً منه: سے چھپنا۔ المَضْبَأ جمع مَضَابِئ: چھپنے کی جگہ۔

۲- ضَبَأَ -ضَبْأً و ضُبُوءًا علی القوم: لوگوں کے پاس اچانک آ پہنچنا۔

ضبث: ضَبَثَ -ضَبْثًا و اِضْطَبَثَ بالشيءِ و علیه: پر سختی سے قبضہ کرنا، کو سختی سے پکڑنا۔ — به: ضُبِثَ علیه: مار کھانا۔ الضَبْثَة جمع ضَبَثَات و أَضْبَاث: قبضہ، گرفت۔ الضُبَاث: شیر کے پنجے۔ الضَبَّاث و الضَبْث و الضَبُوث (ح): شیر۔ المَضَابِث: مفرد مِضْبَث: شیر کے پنجے۔

ضبح: ۱- ضَبَحَ -ضَبْحًا و ضُبَاحًا ت الخیلُ فی عَدْوِها: دوڑنے میں گھوڑوں کا اپنی تھوتھنی سے آواز نکالنا۔ — ضُبَاحًا الأرنبُ و الثعلبُ و القوسُ: خرگوش، لومڑی اور کمان کا آواز نکالنا۔ اِنْضَبَحَ: تھوتھنی سے آواز نکلنا۔

۲- ضَبَحَ -ضَبْحًا ت النارُ العودَ: آگ کا لکڑی کو متغیر کرنا۔ اِنْضَبَحَ لونُهُ: متغیر ہو کر راکھ جیسے رنگ کا ہونا۔ الضِبْح: راکھ۔ الضَبْحَاء: آگ سے جھلسی ہوئی کمان۔

۳- ضَابَحَ ہُ: کا منہ در منہ مقابلہ کرنا، کو گالی دینا، برا بھلا کہنا۔ تَضَابَحَ: ایک دوسرے سے مڈبھیڑ ہونا، ایک دوسرے کو گالی دینا۔

○ ضَبَحَ -ضَبْحًا ہ: کو (آگ کا) کالا کرنا۔ — : گھوڑے کا تھوتھنی سے آواز نکالنا۔

ضبر: ۱- ضَبَرَ -ضَبْرًا الحجارةَ: پتھر تہ بہ تہ رکھنا۔ — الکتبَ: کتابیں جمع کرنا یا انکا بنڈل باندھنا۔ — ضَبْرًا و ضَبَرَانًا الفرسُ او المُقَیَّد: گھوڑے کا پاؤں جوڑ کر کودنا۔ پابندھے ہوئے شخص کا پاؤں جوڑ کر کودنا۔ ضَبَرَ الشيءَ: کو جمع کرنا۔ الضَبْر (مص) جمع ضُبُور (ا ع): محاصرہ میں قلعہ کے نزدیک پہنچنے کا آلہ جو ٹینک سے مشابہ ہوتا تھا۔ محاصرہ کی مشین۔ فرسٌ ضَبْرٌ: طاقتور گھوڑا۔ الضِبَار و الضُبَار: کتابیں۔ الضَبَارَة: طاقت، اچھی صحت اور اچھی جسمانی ساخت۔ الضِبَارَة جمع ضَبَائِر: لوگوں کی ایک جماعت، گروہ۔ (آپ کہتے ہیں: رایتهم یخرجون من المکان ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ یعنی میں نے لوگوں کو اس جگہ سے گروہ در گروہ نکلتے دیکھا) مجمع۔ — و الضُبَارَة جمع ضَبَائِر و الإضْبَارَة جمع اضابیر: کتابوں یا تیروں کا بنڈل۔ أَضْبَر: بہت کودنے والا۔ الضَبُور و الضَبْر: سخت۔ (ح)۔ — الیه: شیر بہت کودنے والا۔

۲- الضَبْر: افلاس، غربت، تنگدستی۔ الضُبْر: بخل۔

○ ضُبَارَة و إضْبَارَة جمع اضابیر: مِسَل (dossier, file)۔ أُضْبُور: مِسَل (dossier, file)۔

ضبز: ضَبَزَ -ضَبْزًا ہُ: کو تیز نظر سے دیکھنا۔ الضِبْز و الضَبِیز من الذئاب: شعلہ بار نظر سے دیکھنے والا بھیڑیا۔

ضبس: ضَبِسَ -ضَبَسًا علی الغریم: قرضدار سے سختی کے ساتھ تقاضا کرنا۔ — ضَبَسًا و ضَبَسَات نفسهُ: کے جی کا بگڑنا، متلانا۔ الضَبِس: بخیل، کنجوس۔ الضِبْس: شریر، کہتے ہیں: هو ضِبْسُ شَرٍّ: وہ شریر ہے۔ الضِبْس: شرارتی، شرانگیز، برائی کی طرف جھکنے والا، مائل بہ شر۔ الضَبِیس: شرارتی، برائی کی طرف جھکنے والا۔ مائل بہ شر، سخت مزاج، بھاری روح و جسم والا، بزدل، احمق۔

ضبط: ۱- ضَبَطَ -ضَبْطًا و ضَبَاطَةً ہُ: سے چمٹنا، پر غلبہ پانا اور قوی ہونا۔ — علیه: کو گرفتار کرنا۔ ضَبِطَت الارضُ: زمین پر عام بارش ہونا۔ تَضَبَّطَ ہُ: کو گرفتار کر کے قید کرنا۔ — الضأنُ: دنبے کا طاقتور اور موٹا ہونا، تھوڑی گھاس کھانا۔ اِنْضَبَطَ: مضبوط ہونا، قابو میں آنا، مناسب ترتیب میں ہونا۔ کہتے ہیں: ضبطه فانضبط: اس نے اس کو مضبوط کیا تو وہ مضبوط ہو گیا، جیسے کہتے ہیں: قَهَرہ فانقهر: اس نے اس پر غلبہ پایا اور وہ مغلوب ہو گیا۔ الضَبْط (مص): روکنا۔ الضَابِط (فا) ضُبَّاط: قوی (ح)۔ شیر۔ (ا ع): جس کا رتبہ کم از کم سیکنڈ لفٹیننٹ ہو، افسر رابطہ (liaison officer)۔ (ا ع): سول اور فوجی تنظیموں میں رابطہ کا ذریعہ۔ الأَضْبَط (ح): شیر۔

۲- ضَبَطَ -ضَبْطًا و ضَبَاطَةً ہُ: کی پوری پوری حفاظت کرنا۔ — العملَ: کام مکمل کرنا اور اچھی طرح کرنا۔ — الکتابَ: کتاب کی تصحیح کرنا اور اس پر حرکات لگانا۔ اِنْضَبَطَ: محفوظ ہونا۔ آپ کہتے ہیں ضبطه فَانْضَبَطَ: اس نے اس کی حفاظت کی اور وہ محفوظ ہو گیا۔ الضابط جمع ضُبَّاط: وشیا حاکم، قائد، گورنر، افسر۔ — و الضابطة (عندالعلماء): قائدہ کلیہ، کلی قانون۔ الضَابِطَة: واحد ضَابِطِیٌّ: پولیس والے، پولیس کا پیشہ۔

۳- ضَبِطَ -ضَبَطًا: دونوں ہاتھوں سے کام کرنا۔ صفت: اضبط م ضَبْطاء جمع ضُبْط۔

○ ضَبَطَ -ضَبْطًا (ہ/ ہ): کو چھیننا، پکڑنا، گرفتار کرنا، روکنا، گرفت میں لینا۔ — ہ: کو رٹنا، پر قابض ہونا، کو رہنے دینا، سے باعزم نبٹنا، کا ماہر بن جانا، لوز کرنا، پر

قابو پانا، کو قابو میں لانا، کو قابو میں رکھنا۔ (ہ/ ۵): کو
قابو میں رکھنا، روکنا، روکے رکھنا، کو زیر کرنا، مغلوب
کرنا، کو قابو میں کرنا۔ ہ: کو گرفت میں لینا، کی قرقی
کرنا، کو قرق کرنا، ضبط کرنا، کو درستی کے ساتھ کرنا یا اچھی
طرح کرنا، کو بالکل ٹھیک ٹھیک کرنا، کی صحیح تعریف کرنا،
کو نظام کے تحت لانا، باقاعدہ بنانا، ٹھیک کرنا، کو ترغیب
دینا، ہم آہنگ بنانا، موافق یا مطابق بنانا، پر سختی سے عمل
کرنا یا عمل پیرا ہونا (وقت) ٹھیک رکھنا، ترتیب دینا،
ترتیب سے رکھنا، کی تصحیح کرنا، کا اندراج کرنا، ٹھیک
ماپنا، کو تول یا ناپ کر دینا، کو پورا پورا لینا۔ انضبط:
رکنا، نظام کے تحت آنا، ترتیب میں رکھا جانا، سدھایا
جانا، تربیت دیا جانا، متعین ہونا، استوار ہونا، قائم ہونا۔
ضبطًا: ٹھیک طور پر، ٹھیک ٹھیک، پابندی، وقت کیساتھ
بالضبط: ٹھیک طور پر ٹھیک ٹھیک، وقت کی پابندی سے۔
ضبطُ الحسابات: کھاتہ نویسی (book
keeping) ضبط الشهوة: پرہیزگاری محتاط
زندگی، پارسائی ضبط النفس: جذبات پر قابو
(self, command)، ضبط نفس، self
control۔ جهاز الضبط: کنٹرول کا آلہ،
controlling device ضابطِیة: پولیس
اسٹیشن، پولیس مَضبطة جمع مَضابط: پروٹوکول
protocol، کارروائی، روداد (minutes)۔
اِنضباط: ضبط وانضباط (discipline) لجنة
الانضباط: تادیبی یا انضباطی مجلس disciplinary
board ضابط: آلہ کنٹرول controlling
device، کنٹرول، گورنر، ریگولیٹر، جمع ضباط: آفیسر
جمع ضوابط: عام قاعدہ، معیار، اصول، قانون،
(اخلاقی) وعظ و نصیحت ضابط آمر: سینئر آفیسر
senior officer ضابط مامور: لفٹیننٹ۔
ضابط الصف: جمع ضباط الصف: نان کمشنڈ
آفیسر ضابط الصوت Volume
control صف ضابط جمع صف ضابط: نان
کمشنڈ آفیسر بغیر ضابط ولا رادع: مکمل طور پر
بے لگام۔ Completing unrestrained
قابو سے باہر (out of all control) ضابطة:
پولیس جمع ضوابط: کنٹرول کرنے والی طاقت یا
حکم مضبوط: درست صحیح، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔
ضبع: اضبع ضبعًا و ضبوعًا و ضبعانًا البعیرُ:
اونٹ کا تیز دوڑنا ـــ القومُ للصلح: صلح کا ارادہ
کرنا اور اس کی طرف مائل ہونا ـــ ضبعاهُ: کو
مارنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھانا ـــ علی فلان: کو بد
دعا دینے کے لئے ہاتھ اٹھانا ضبعت الخیلُ او
الابلُ: گھوڑوں یا اونٹوں کا اپنی چال میں پہلوؤں کو
پھیلانا ضابع مضابعةً: ہر ایک کا دوسرے کی
طرف تلوار کا ہاتھ بڑھانا ـــ الرجلَ: سے مصافحہ
کرنا اضطبع: اپنا ایک بازو ننگا کرنا، بازو ننگا کر کے
چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے لا کر بائیں کاندھے پر
ڈالنا ـــ الشیءَ: کو بغل میں لینا الضبع (مص)
جمع اضباع: بازو، بازو کا درمیان، بغل۔ کہتے ہیں:
اخذ بضبعه: اس نے اس کی معاونت کی اور اس کو
قوی کیا۔ والضباع: دعا کیلئے ہاتھ اٹھانا الضابع
(فا) من الخیل او الابل جمع ضُبّع: بہت تیز
دوڑنے والا گھوڑا یا اونٹ۔
۲ضبع ضبعًا الرجلُ: ظلم کرنا، جور کرنا۔
۳ضبع الرجلُ: بزدل ہونا۔
۴الضُبع والضبعُ جمع ضباع: کنارہ پہلو الضبع
جمع اضباع: کنارہ، پہلو۔ جمع ضِباع و اَضبُع و
ضُبع و ضَبع و ضُبوعة و ضبعات و مَضبعة
(ح): بجو (مونث ہے مگر مذکر و مونث دونوں پر بولا
جاتا ہے۔ اس کی تصغیر خلاف قیاس اُضَیبِع ہے۔ کبھی
مادہ کو ضبعة بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اسکی دو قسمیں مشہور
ہیں: دھاریدار اور سفید اور کالے دھبے والی۔ موخر
الذکر اول الذکر سے بڑی اور طاقتور ہے الضبع:
سخت قحط کا سال۔ جمع ضباع و اَضبُع و ضُبع و
ضُبُع و ضُبوعة و ضبعات و مَضبعة (ح):
وحشی بجو الضبعان: (جس کی مثنی ضبعان ہے نہ کہ
ضبعانان) جمع ضباعین م ضبعانة جمع ضباعین و
ضبعانات (ح): نر وحشی بجو۔
٥ ضبع و ضبع: (مؤنث) جمع ضباع و اَضبُع:
چرخ، لکڑ بگڑ۔
ضبن: اضبن ضبنًا المکانُ: جگہ کا تنگ ہونا
صفت: ضبن۔
۲ضبن ضبنًا عنه الهدیةَ: تحفہ کو کسی تک پہنچنے سے
روکنا، منع کرنا۔
۳ضبن ضبناهُ: کو بغلوں کے نیچے رکھنا یا لینا۔
اَضبن و اضطبن الشیءَ: کو بغلوں کے نیچے رکھنا
یا لینا الضبن (مص): بغل کے نیچے رکھنا یا لینا۔
الضِبن: بغل اور پہلو کے درمیان۔ کہتے ہیں: فلانٌ
فی ضِبن فلان: فلاں شخص فلاں شخص کی یا سرپرستی
میں ہے المضبنة و الضِبنة و الضُبنة و الضَبنة:
کنبہ، عیال، بال بچے۔ (کہتے ہیں فلان فی ضبنة
فلان: فلاں شخص فلاں شخص کی پناہ میں ہے یا سرپرستی
میں ہے)، بیوی۔
۴الضبان: چمڑے یا کپڑے کا ٹکڑا جو کفش دوز جوتی کے
اندر کی طرف رکھتا ہے۔ (ترکی لفظ)۔
٥ اِضطبن: بغل کے نیچے لینا ضِبن: بغل۔
(arm-pit)
ضبا: ضبا ضبوًا الیه: کی پناہ لینا ـــ تهُ النارُ: کو
آگ کا بھوننا، متغیر کرنا اضبی الشیءَ: کو اونچا
کرنا، پکڑنا، روکنا ـــ علیه: کو جا پکڑنا الضابی
(فا): راکھ الضَبوة عند العامة: تمباکو رکھنے کی
چمڑے کی تھیلی۔ صحیح لفظ الضَبنة ہے۔ یہ الظبیة کی
تحریف بھی ہوسکتی ہے جس کا معنی چمڑے کا بٹوہ ہے۔
المَضباة: بھوبھل کی سکی ہوئی روٹی۔
ضج: اضج ضجًا و ضجیجًا و ضجاجًا و
ضُجاجًا: چیخ پکار کرنا، شور مچانا ضاجّ ضجاجًا و
مضاجةً: کے ساتھ جھگڑنا اضجّ اضجاجًا
القوم: چیخنا، شور مچانا الضجة: چیخ پکار۔ کہتے ہیں:
سمعت ضجة القوم: میں نے لوگوں کی چیخ پکار
سنی الضجّاج: بہت چلانے والا الضجوج
من النوق: دودھ دیتے وقت چلانے والی اونٹنی۔
۲ضجّج الرجلُ: جانا، مائل ہونا۔
۳ضجّج الطائر و نحوهُ: پرندہ وغیرہ کو زہر دینا۔
الضجاج: ہر زہریلا پودا جو پرندوں یا درندوں کے
لئے زہر کا کام دے۔
۴الضجاج: ہاتھی دانت، ایک قسم کا مہرہ الضجاج:
کھانے کا گوند۔
٥ ضج ضجًا و ضجیجًا: شور مچانا، اودھم مچانا،
چلانا، چیخ و پکار کرنا، شور و غوغا برپا کرنا ضجّ: بمعنی
ضجّ۔ ضجة: چیخ، شور و غل، چیخ پکار، شور غل
غپاڑہ ضجیج: بمعنی ضجة ضجوج:
چلانے والا، شور کرنے والا، چیخ مارنے والا، چلانے
والا، دھاڑنے والا، گرجنے والا ضجاج: زور سے
دھاڑنے والا، گرجنے والا، چلانے والا، شور و غوغا
کرنے والا۔
ضجر: ضجر ضجرًا و تضجّر منه وبه: سے
یا پر، بے قرار و بے چین ہونا، دل تنگ و غمگین ہونا۔
صفت ضجر۔ اضجرهُ: کو ستانا، تنگ کرنا۔
الضجر (مص): غم و اندوہ کی بے کلی، دل کی تنگی۔
الضجر: تنگ جگہ المضجرة: بے قراری،
کبیدگی المضجرة و الضجور: بہت بے قرار،
بہت تنگ دل المضجر جمع مضاجر و
مضاجیر: کبیدہ خاطر کرنے والا، بے قرار و بے

چین کرنے والا۔

ضَجِرَ ضَجَراً من او ب: پر، کے متعلق ناراض ہونا، غصے ہونا، برہم ہونا، تنگ ہونا، پریشان ہونا، دق ہونا، برافروختہ ہونا، ہیجان میں آنا، اشتعال میں آنا، بھڑکنا، نامطمئن ہونا، ناخوش ہونا، بے چین ہونا، بے کل ہونا، افسوس کرنا، غم کرنا۔اَضْجَرَ هُ: کو غصہ دلانا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، دق کرنا، برہم کرنا، تکلیف دینا، زحمت دینا، سخت اذیت دینا، سخت کوفت پہنچانا، تشویش میں ڈالنا، بے چین کرنا، بدحواس کرنا، کے چھکے چھڑانا۔تَضَجَّرَ بمعنی ضَجِرَ۔ ضَجَر: برہمی، جھنجھلاہٹ، ہیجان، جھلاہٹ، پریشانی، پریشان کن بات، غصہ، بے اطمینانی، ناخوشی، عدم اطمینان، غیر مطمئن کرنے والی بات، خفگی، آزردگی، دکھ، رنج، الم، ملال، اندوہ، غم کا باعث، سخت غم، وجہ ملال۔ ضَجِر: برہم، تنگ، پریشان، برافروختہ، غصہ میں، ہیجان زدہ، ناراض، چڑچڑا، بدمزاج، خفا، بیزار، روٹھا ہوا، اداس، ناخوش، بے کل، بے چین، پریشان، غم زدہ، تکلیف میں، بے آرام۔مُضْجِر: پریشان کن، برہم کرنے والا، برافروختہ کرنے والا، تنگ کرنے والا، دق کرنے والا، ہیجان میں لانے والا، اشتعال دلانے والا، سخت غصہ دلانے والا، اکتا دینے والا، تھکا دینے والا۔مُتَضَجِّر: بمعنی ضَجِر۔

ضجع: اِضْجَعَ ضَجْعاً و ضُجُوعاً و اِنْضَجَعَ و اِضَّجَعَ و اضْطَجَعَ: پہلو کے بل لیٹنا۔ضَجَّعَ و تَضَجَّعَ فی الامر: کام میں کوتاہی کرنا۔ضَاجَعَ هُ: کے ساتھ لیٹنا، صفت مُضَاجِع۔ کہتے ہیں: ضَاجَعَهُ الهَمُّ: اسے غم لگ گیا۔اَضْجَعَ هُ: کو پہلو کے بل لٹانا۔المُضَاجِع عن الامر: کام سے غافل ہونا۔الضَّجْعَة (الضجع کا واحد): ایک بار کا سونا، رائے کی کمزوری۔الضِّجْعَة: لیٹنے کی ہیئت، سستی، کاہلی۔الضُّجْعَة: رائے کی کمزوری۔ و الضُّجَعَة و الضُّجَعِيّ و الضِّجْعِيّ و الضُّجْعِيَّة و الضِّجْعِيَّة: بہت لیٹنے والا، سست کاہل۔المُضَاجِع جمع وَاجِع: احمق۔ ـــ من الدواب: نامبارک جانور، بے خیر جانور۔رَجُلٌ ضَاجِعٌ: بہت لیٹنے والا، سست، کاہل۔الضَّاجِعة جمع ضَوَاجِع: ضَاجِع کا مونث۔الضُّجُوع: کمزور رائے والا، آہستہ رفتار بادل۔المُضْجِع م مُضْجِعَة: ساتھ لیٹنے والا۔المَضْجَع جمع مَضَاجِع و المُضْطَجَع: خواب گاہ۔مَضَاجِعُ الغَيْث: بارش کی کثرت کی جگہیں۔المَضْجُوع: کمزور رائے والا۔

۲۔ضَجَعَ ضَجْعاً و ضُجُوعاً النجمُ: ستارے کا غروب ہونے کے لئے جھکنا۔ضَجَّعَ ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے لئے جھکنا۔اَضْجَعَ الشیءَ: کو پست کرنا۔ ـــ الحرفَ: حرف کو کسرہ کی طرف امالہ کرنا۔ ـــ جوالقَهُ: بھری ہوئی گون کو خالی کرنا۔الضِّجْع: میلان، جھکاؤ۔ کہتے ہیں ضِجْعُهُ اِلَيَّ: اس کا جھکاؤ یا میلان میری طرف ہے۔الضِّجْعَة: نیند، خواب، آرام و راحت۔ الضَّاجِع جمع ضَوَاجِع: وادی کا موڑ اور اس کا ڈھلوان، دریا کا دہانہ اور موڑ۔ ـــ من النجوم: غروب ہونے کے لئے جھکنے والا ستارہ۔ کہتے ہیں: اراك ضاجعا الی فلان: میں تمہیں فلاں شخص کی طرف مائل دیکھتا ہوں۔الضَّاجِعَة جمع ضَوَاجِع: دریا کا دہانہ۔الضُّجُوع: بھاری مشک جو اٹھانے والے کو جھکا دے، بڑا ڈول۔

۳۔المُضْجِع: صابون، ہر وہ چیز جس سے کپڑا صاف کیا جائے۔الضَّاجِعَة جمع ضَوَاجِع: پہاڑی ـــ و الضجعاء: زیادہ بکریاں۔

ضَجِعَ ضَجْعاً و ضُجُوعاً: پہلو کے بل لیٹنا، لیٹنا، جھکنا، ٹیک لگانا، منہ کے بل گرا ہونا، سو جانا۔ ضَاجَعَ ها: عورت کے ساتھ مباشرت کرنا، مجامعت کرنا۔انضجع بمعنی ضَجَعَ۔ اِضْطَجَعَ و اِضَّجَعَ بمعنی: ضجع ضَجْعَة: لیٹنے کی حالت، لیٹنا، نیند، خواب۔ضُجْعَة: دیر سے اٹھنے والا، سست کاہل الوجود، جس کی ہڈیوں میں سستی پڑی ہو، مٹھا۔ ضُجْعِیّ: دیر سے اٹھنے والا، سست، کاہل الوجود، جس کی ہڈیوں میں سستی پڑی ہو، مٹھا۔ضَجِيع: شریک بستر، ہم بستر، ہم خواب، ساتھی۔مَضْجَع جمع مَضَاجِع: بستر، پلنگ۔اَخَذَ مَضْجَعَهُ: سونے کے لئے لیٹنا۔اَقَضَّ مَضْجَعَهُ یا اَقَضَّ علیه المَضْجَعَ یا اَقْلَقَ مَضْجَعَهُ: کی نیند حرام کرنا، کو سونے نہ دینا، کو سونے سے محروم کرنا۔مُضَاجِع: ہم بستر۔مُضْطَجَع: پلنگ، بستر۔

ضجم: ضَجِمَ ضَجَماً الفمُ او العنقُ: منہ یا گردن کا ٹیڑھا ہونا۔اَضْجَمُ م ضَجْماء: ٹیڑھے منہ یا گردن والا۔ کہتے ہیں فی فمه ضَجَم: اس کے منہ میں ٹیڑھا پن ہے۔تَضَاجَمَ الفمُ: منہ کا ٹیڑھا ہونا۔ ـــ الامرُ بینهم: کسی امر کا متنازع فیہ ہونا، کسی امر میں اختلاف ہونا۔

ضح: الضِّحّ: سورج، دھوپ، ہر چیز جس پر دھوپ پڑے۔

۲۔ضَحْضَحَ و تَضَحْضَحَ السرابُ: سراب کا متحرک ہونا۔ ـــ الامرُ: کام کا واضح ہونا۔الضَّحْضَح: تھوڑا پانی۔الضَّحْضَاح: تھوڑا پانی یا پایاب پانی، بہت اونٹ۔

ضَحْضَحَ و تَضَحْضَحَ: سراب کا مرتعش ہونا، جھلملانا۔ضَحْضَاح: کم گہرا، اتھلا، پایاب (پانی)۔

ضحك: اضحك ضَحْكاً و ضِحْكاً و ضَحِكاً و ضِحِكاً: ہنسنا۔ (کہتے ہیں ضحك منه و به و علیه: وہ اس پر ہنسا)۔ کشادہ روئی کرنا جس سے اس کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ضَاحَكَ هُ: ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا۔ ایک دوسرے پر ہنسی میں غالب آنا۔ اَضْحَكَ هُ: کو ہنسانا۔تَضَحَّكَ و اِسْتَضْحَكَ بمعنی: ضَحِكَ۔ تَضَاحَكَ: ہنسنا۔ ـــ الرجلُ: بتکلف ہنسنا۔ ـــ القومُ: ایک دوسرے کو ہنسانا۔ الضاحِكة جمع ضَوَاحِك: ضَاحِك کا مونث۔ ہر وہ دانت جو ہنسی میں ظاہر ہو۔ کہتے ہیں افترّ عن ضَوَاحِكه: وہ آہستہ آہستہ ہنسا۔الضُّحْكَة: وہ شخص جس پر لوگ ہنسیں۔الضُّحَكَة: وہ شخص جو لوگوں پر ہنسے۔ ـــ و الضُّحُكَّة و الضَّحَّاك و الضَّحُوك و المِضْحَاك: بہت ہنسنے والا۔الاُضْحُوكَة جمع اَضَاحِيك: ہنسانے والی چیز۔

۲۔ضَحِكَ ضَحْكاً و ضِحْكاً و ضَحِكاً ضِحِكاً الطریقُ: راستہ کا ظاہر ہونا۔ ـــ ت الارضُ عن النبات: زمین کا نباتات اگانا۔ ـــ الشیبُ براسه: سر میں بڑھاپا ظاہر ہونا۔ ـــ طلعُ النخلة: درخت خرما کا شگوفہ پھوٹنا۔الضِّحْك (مص): سفید دانت، پھول، کھجور کا شگوفہ، جھاگ، برف، راستے کا وسط، شہد۔الضَّاحِك (فا): بہت سفید پہاڑی پتھر۔ کہتے ہیں: لہ رأیٌ ضَاحِكٌ: اس کی رائے واضح ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔الضَّحُوك جمع ضُحُك و الضَّحَّاك: راستے کا وسط، واضح راستہ۔

۳۔ضَحِكَ ضَحْكاً الرجلُ: تعجب کرنا۔الضَّحْك: تعجب۔

۴۔اَضْحَكَ الحوضَ: حوض کو پانی سے لبریز کرنا۔

ضَحِكَ ضَحْكاً و ضِحْكاً و ضَحِكاً من او ب: پر ہنسنا، کی ہنسی اڑانا۔ ـــ من/ب/علی: پر فقرے کسنا، کا مذاق اڑانا، پر پھبتی کسنا، آوازے کسنا، کا منہ چڑانا، کو گھٹیا یا برا جاننا، حقیر سمجھنا۔ضحك بملء شِدْقَیْه او ملء شِدْقَیْه: کھیس نکالنا، کھسیانی ہنسی ہنسنا۔ضَحِكَ علی ذَقْنِه (جمع علی ذقونهم): کو بیوقوف بنانا، کو بنانا، کو جھوٹی بات کا یقین دلانے کی

کوشش کرنا۔ ضَحِك في ذقنه: کے منہ پر ہنسنا۔
ضَحَّكَ هُ: کو ہنسانا۔ اَضْحَكَ و اسْتَضْحَكَ (ه من): کو کے متعلق ہنسانا۔ ما يُضحِكُ الثكلي: جو اس عورت کو بھی ہنسا دے جس کا بچہ مر گیا ہو۔ مراد بہت ہی مزاحیہ۔ ضَحْك و ضِحْك: ہنسنا، ہنسی قہقہہ۔ ضَحْكَة جمع ضَحَكات: قہقہہ، ہنسی۔
ضُحْكَة: تمسخر کا نشانہ، ہنسی اڑانے کی چیز۔ ضَحُوك: اکثر یا ہمیشہ ہنسنے والا، ہنسی، قہقہہ۔ ضَحَّاك: اکثر یا ہمیشہ ہنسنے والا، ہنسی، قہقہہ، مسخرا، جوکر، بھانڈ۔
اُضْحُوكَة جمع أَضاحِيك: تمسخر کا نشانہ، ہنسی اڑانے کی چیز، ہنسی، دل لگی، چہل، ہنسی ہنسی میں دیا ہوا جھانسا، عملی مذاق۔ أَضْحَك: زیادہ مضحکہ خیز یا احمقانہ جس پر زیادہ ہنسی آئے، زیادہ مزاحیہ۔ مَضْحَكَة: تمسخر کا نشانہ، ہنسی اڑانے کی چیز۔ ضاحِك: ہنسنے والا۔ ضاحِكُ السِنّ: خوش باش، شادمان، خوش زندہ دل، ہنس مکھ، شگفتہ، دلکشا۔ مُضْحِك: مضحکہ خیز، جس پر ہنسی آئے، مزاحیہ، مزاحیہ اداکار، بھانڈ، مسخرا۔ قصة تمثيلية مضحكة: طربیہ (comedy)۔

ضحل: ضَحَلَ ـَ ضَحْلاً الغديرُ: تالاب میں کم پانی ہونا۔ ــــ الماءُ: پانی کا نتھرا ہوا ہونا، صاف شفاف ہونا۔ کہتے ہیں: ما أَضْحَلَ خيرَكَ: تمہاری سخاوت کتنی کم ہے! الضَّحْل جمع ضِحَال و أَضْحَال و ضُحُول: کم گہرا، اتھلا پانی۔ المَضْحَل: کم پانی والی جگہ۔

ضحا: ا۔ ضَحَا ـُ ضَحْوًا و ضُحُوًّا و ضُحِيًّا الرجلُ: دھوپ کھانا، دھوپ میں بیٹھنا۔ ــــ الشيءُ: کو دھوپ لگنا۔ ــــ الطريقُ: راستہ کا ظاہر ہونا۔ کہتے ہیں: ضحا ظلُّهُ: یعنی وہ مر گیا۔ شَجَرة ضاحِية: بے سایہ درخت۔ ضَحِيَ يَضْحَى ضَحًا و ضَحَاءً ا: کو دھوپ لگنا، دھوپ کھانا، کھل جانا۔ ــــ ت الليلةُ: رات کا بے بادل ہونا۔ ضَحَّى تَضْحِيَةً فلانًا: کو چاشت کے وقت کھانا کھلانا۔ ــــ الغنمَ: بکریوں کو چاشت کے وقت چرانا۔ ــــ بالشاة: قربانی کے ایام میں بکری کو چاشت کے وقت ذبح کرنا، کو چاشت کے وقت ذبح کرنا (بلا قید ایام قربانی)۔ ــــ الرجلُ: فدیہ ہو جانا۔ ضَحَّى بنفسه او بمصلحته او بماله في سبيل كذا او من اجل كذا: (عصر حاضر کے ادباء کے نزدیک) کسی راہ میں یا خاطر اپنی جان، مفاد یا مال کو قربان کر دینا۔ ــــ عن الامر: معاملہ کو بیان کرنا، ظاہر کرنا۔ ضاحَى مُضاحاةً الرجلَ: کے پاس بوقت چاشت آنا۔ أَضْحَى: چاشت کے وقت میں ہونا۔ ــــ الشيءَ: کو ظاہر کرنا۔ کہتے ہیں: اَضْحَى اللّهُ ظلَّكَ: اللہ تجھے ہلاک کرے (بددعاء کے طور پر)۔ ــــ يفعل كذا: وہ ایسا کرنے لگا (چاشت کے وقت یا مطلقاً) (نوٹ: اس صورت میں یہ لفظ کان کا عمل کرتا ہے)۔ تَضَحَّى تَضَحِّيًا: چاشت کے وقت کھانا، چاشت کے وقت سو جانا، دھوپ کھانا۔
اسْتَضْحَى اِسْتِضْحَاءً للشمس: (خاص طور پر) سردی کے موسم میں دھوپ کھانا یا دھوپ میں بیٹھنا۔ الضَحَاء: (سورج نکلنے کے بعد) قبل از دوپہر (کا وقت، چاشت کا وقت۔ الضَحْو (مص) و الضَحْوَة: قبل از دوپہر، چاشت کا وقت۔ الضُحَى: چاشت کا وقت جب سورج چڑھ آیا ہو، سورج، بیان، کہتے ہیں: ما لِكلامِهِ ضُحًى: اس کی گفتگو کسی قدر غیر واضح ہے۔ الضَحْيَانُ م ضَحْيَانَةٌ: بوقت چاشت کھانے والا۔ الضَحِيَّةُ جمع ضَحَايا: دن کا چڑھنا، چاشت کا وقت، قربانی کی بکری، ذبیحہ۔ الأَضْحَاة جمع أَضْحًى و الأُضْحِيَّة و الإِضْحِيَّة جمع أَضاحِيّ: قربانی کی بکری۔ يوم الأَضْحَى: قربانی کا دن۔ الأَضْحَى م ضَحْياء من الخيل: سفید سیاہی مائل گھوڑا۔ الضاحِي (فا): دھوپ کھانے والا۔ ضاحِي الجِلْد: کھال کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے رہے۔ الضاحِيَة جمع ضَوَاحٍ: الضاحي کا مونث؛ ہر چیز کا سامنے کا پہلو۔ کہتے ہیں: شَكَتْ ضَوَاحِيهِ: اس کے دھوپ کھانے والے اجزاء جیسے کندھے وغیرہ نے تکلیف دی۔ شَجَرَةٌ ضَاحِيَةُ الظل: وہ درخت جس کا سایہ نہ ہو۔ کہتے ہیں: فَعَلَهُ ضاحِيَةً: اس نے وہ کام سرعام کیا۔ ضَوَاحِي البلدة: شہر کا گردونواح۔ ــــ الحوض: حوض کے اطراف۔ يومٌ إضحيان: بے ابر کا دن۔ لَيلةٌ إضحيانةٌ و إضحِيَةٌ: روشن رات۔ ارضٌ مَضْحَاةٌ: سورج کے سامنے کی زمین، دھوپ والی زمین۔

۲۔ ضَحَّى تضحيةً عن الامر: کام میں دیر لگانا، آہستگی کرنا۔ کہا جاتا ہے: ضَحِّ رُوَيدًا: جلدی نہ کر۔ أَضْحَى عن الامر: سے دور ہونا۔

ضَحَّى ب: کو قربان کرنا، کی قربانی دینا۔ ضَحَّى بنفسه: اپنی جان کی قربانی دینا۔ ــــ بالنفس و النفيس: جان و مال کی قربانی دینا۔ بين عشية و ضُحَاها: ایک دن سے دوسرے دن تک، یکا یک، اچانک۔ ذَهَبَ او وَقَعَ ضَحِيَّتَهُ: کا شکار ہونا۔ عيد الأضحى: عید قربانی۔ يوم الأضحى: قربانی کا دن، دس ذوالحجہ۔ أُضْحِيَة جمع أَضَاحِي: قربانی کا جانور، خونی قربانی۔ ضَحِيَة جمع ضَحَايا: قربانی کا جانور، شکار۔ تَضْحِيَة: قربانی دینا جمع تَضْحِيات: قربانی۔ ضاحٍ للشمس: دھوپ والا، جہاں سورج کی روشنی پہنچے۔ ضاحِيَة جمع ضَوَاحٍ: گردو پیش، گرد ونواح، قرب و جوار، دور افتادہ علاقے، نواحی بستی۔
مُضَحًّى: وہ جگہ جہاں ناشتہ کیا جائے۔

ضخ: ضَخَّ ـُ ضَخًّا الماءَ: پانی گرانا۔ ــــ ت العينُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اِنْضَخَّ الماءُ: پانی گرنا۔ المِضَخَّة (ف): فوارہ، پچکاری۔ ــــ الماصّة: کنویں سے پانی نکالنے کا آلہ۔
ضَخَّ ه: (پانی) نکالنا، دھار بنا کر نکالنا، پھوٹ بہانا، پانی کا فوارہ چھوڑنا۔ مِضَخَّة جمع مِضَخَّات: پچکاری، فوارہ، پھوار، پمپ (pump)۔ مِضَخَّة جذّابة: خلا پیدا کر کے کھینچنے والا پمپ (suction pump)۔ مِضَخَّةُ الحرائق (او الحريق): آگ بجھانے والا انجن fire engine۔ مِضَخَّة رافِعَة: Suction pump۔

ضخز: ضَخَزَ ـَ ضَخْزًا عينَهُ: آنکھ نکالنا۔

ضخم: ضَخُمَ ـُ ضَخَامَةً و ضِخَمًا: موٹا ہونا، جسیم ہونا، ضخیم ہونا۔ صفت: ضَخْم جمع ضِخَام م ضَخْمَة جمع ضَخْمات۔ ضَخَّمَ هُ: کو ضخیم بنانا۔ الضُخَام: ہر بڑے جسم کی چیز۔ الأَضْخَم: ضخیم، جسیم، موٹا، زیادہ جسیم یا ضخیم۔ المِضْخَم: بہت مارنے والا، بڑی قدر و منزلت والا سردار۔
ضَخُمَ ـُ ضَخَامَةً: بڑا جسیم، ضخیم، بھاری، موٹا، بھاری بھرکم یا طول طویل ہونا یا ہو جانا۔ ضَخَّمَ ه: کی افراط زر کرنا، میں ہوا بھرنا۔ تَضَخَّمَ: پھیلنا (ہوا یا گیس کا) بھر جانا۔ ضَخْم جمع ضِخام: بڑا، کافی، بڑا، عظیم، ضخیم، بھاری، بھاری بھرکم، طول طویل، بہت وسیع، خاصا موٹا، جسیم، لحیم شحیم، موٹا، فربہ، گول مٹول، موٹا تازہ، گداز جسم والا، شاندار پر شکوہ، ٹھاٹھ کا، عظیم الشان۔ المَدْفَعِيَّةُ الضَخْمة: بھاری توپ خانہ، بھاری توپیں۔ تَضَخُّم و تضخم مالي او نقدي: افراط زر (inflation)۔ مُضَخِّم جمع مُضَخِّمات: آلہ جہیر الصوت، بلند گو amplifier۔ مُضَخِّمُ الصوت: لاؤڈ سپیکر loud speaker

ضد: ا۔ ضَدَّ ـُ ضَدًّا فلانًا في الخصومة: پر جھگڑے میں غالب آنا۔ ــــ هُ عن كذا: کو نرمی کے ساتھ ہٹانا۔ ضادَّ مُضادَّةً هُ: کی مخالفت کرنا۔ أَضَدَّ: تردید کرنا، ناراض ہونا۔ تَضادّا تضادًّا: ایک دوسرے کی

مخالفت کرنا۔ الضِد جمع أضداد و ضِدّ: مخالف، مثل، نظیر (ضد)، دشمن۔ الأضداد: وہ کلمات جن کے متضاد معنی ہوں۔ جیسے ضد کا لفظ جس کا معنی مخالف اور نظیر ہے۔ کہتے ہیں: هو ضِدّه: یعنی وہ اس جیسا یا اس کی مثل ہے یا اس کا مخالف ہے۔ الضدید: ضد۔ نظیر۔ کہتے ہیں: لا ضدید له: اس کا کوئی نظیر نہیں۔

۲۔ ضَدَّ ۔ضَدًّا القربةَ: مشک بھرنا۔

۳۔ اَضَدَّ: غضبناک ہونا۔

ضَادَّ: متضاد ہونا، مخالف ہونا، مخالفانہ ہونا، معاندانہ ہونا، الٹ ہونا، معکوس ہونا۔ ـــ ہ/ہ: کے خلاف کام کرنا، کا مخالف ہونا۔ ـــ ہ: کو دشمن بنانا، بیری بنانا۔ ـــ ہ: کے خلاف کرنا، کی خلاف ورزی کرنا۔ ـــ (ہ/ ہ): کے خلاف ہونا۔ ـــ ہ: سے متضاد ہونا۔ ـــ (ہ/ہ): کے مخالف کام کرنا۔ تَضَادَّ: ایک دوسرے کے خلاف ہونا، مخالف ہونا، متضاد ہونا، ایک دوسرے کی تردید کرنا۔ ضِدّ جمع أضداد: مخالف، متضاد، نمایاں فرق، دو مخالف معانی رکھنے والا لفظ؛ دشمن، حریف، مقابل، مدمقابل، مخالف، مرض شکن ٹیکہ، تریاقی ٹیکہ (antitoxin)، تریاق (antidote) بمعنی مخالف بہ خلاف۔ ضِدَّ: کے خلاف۔ کان علی الضد من ذلك: الٹ کرنا یا سوچنا، مخالف موقف اختیار کرنا۔ ضِدِّیَة: تخالف، تباین، تضاد، مخالفت، مقابلہ، دشمنی۔ مُضَادّ: مخالف، مقابل، نیز بمعنی counter, contra, ‹anti-›، مُضَادات: تریاق کی خاصیت رکھنے والی ادویہ۔ مُضادات للحبل: مانع حمل ادویہ contraceptives۔ مُضَادات حشریة: کیڑے مار ادویہ insecticides۔ مضادات للفساد: جراثیم کش ادویہ antiseptics، متضاد: مخالف۔ متضاد، مقابل۔

ضدی: ضَدِیَ یَضْدَی ضَدًی علیه: پر غضبناک ہونا، صفت: ضَادٍ م ضَادِیَة جمع ضَوَاد و ضَادِیات۔ ضَادَی مُضَادَاةً ہُ: کی مخالفت کرنا۔ أَضْدَی إِضْدَاءً الإناءَ: برتن بھرنا۔

ضرّ: ضَرَّ ۔ضَرًّا و ضُرًّا فلاناً و لفلان: کو نقصان پہنچانا۔ ضُرَّ بَصَرُہُ: اندھا ہونا۔ ضَرَّرَ تَضْرِیراً ہُ: کو بہت زیادہ نقصان پہنچانا۔ ضَارَّ ضِرَاراً و مُضَارَّةً ہُ: کو نقصان پہنچانا۔ أَضَرَّ الرجُلُ: اندھا ہو جانا۔ ـــ ہُ: کو تکلیف پہنچانا۔ تَضَرَّرَ: نقصان پانا۔ إِسْتَضَرَّ به: سے نقصان پانا۔ الضَرّ و الضُرّ و الضَرَر جمع أضرار: نقصان، تختی، تنگی، بدحالی، کمی۔ الضَرَّاء: سختی، تنگ حالی، قحط، جانی و مالی نقصان۔ الضُرَّة: جانی و مالی نقصان۔ الضَرَّة: اسم مرة، تکلیف، تنگ حالی۔ الضَرارة: جانی و مالی نقصان، اندھا ہو جانا۔ الضارّ النافع: نفع بخش نقصان پہنچانے والا۔ (اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے)۔ الضارُورة: نقصان۔ الضَرِیر: نقصان۔ ـــ جمع أَضِرَّاء و اَضْرار م ضَرِیرَہ جمع ضَرائِر: اندھا، دبلا، بیمار، نقصان زدہ۔ التَضِرّة و التَضُرَّة: تنگ حالی۔ المَضَرَّة جمع مَضَار: نقصان۔

۲۔ ضَرَّ ۔ضَرًّا و ضُرًّا ہُ إلی کذا: کو پر مجبور کرنا۔ کہتے ہیں: لا یضرك علیه رجُلٌ: تم کوئی مرد نہیں پاؤ گے جو اس شخص سے زیادہ تم کو دے سکے۔ ضَارَّ ضِراراً و مَضارَّةً ہُ: کی مخالفت کرنا۔ أَضَرَّ ہُ علی الأمر: کو کسی کام پر مجبور کرنا۔ اِضْطَرَّ ہُ إلی کذا: کو پر مجبور کرنا، کو کا حاجت مند بنانا۔ ـــ أُضْطُرَّ: مجبور کیا جانا۔ الضِرّ: رجُلٌ ضِرٌّ أَضْرارٍ: اپنی ذات میں مصیبت مرد۔ الضَرَّة: حاجت ضرورت۔ الضُرُورَة و الضَارُو و الضَارُورَة و الضارُوراء: حاجت، ضرورت، اس سے مثل ہے: الضروراتُ قبیح المحظورات: ضرورت کسی قانون کو نہیں جانتی۔ الضَرُورِیُ: ضروری۔ جس پر انسان مجبور ہو۔ جس میں کرنے نہ کرنے کا اختیار چھین لیا گیا ہو۔

۳۔ ضَارَّ امرأتَهُ: اپنی عورت پر سوتن لانا۔ أَضَرَّ الرجُلُ: سوت لانا۔ الضِرّ و الضُر: مرد کا کسی کو سوت کر کے لانا۔ ضَرَّة المرأة: عورت کے خاوند کی بیوی، یعنی عورت کی سوت، سوتن۔ جمع ضَرائِر۔ کہتے ہیں: بینہم داء الضرائر: ان کے درمیان حسد ہے۔ الضریر: غیرت۔ رجُلٌ مُضِرّ: دو یا زائد بیویوں والا۔ إمرأةٌ مُضِرّ و مُضِرَّة: سوتنوں والی عورت، عورت جس کی سوت یا سوتن ہوں۔

۴۔ ضَارَّ ضِراراً و مُضَارَّةً ہُ: کی مخالفت کرنا، سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، سے مسابقت کی سعی کرنا۔ أَضَرَّ به: کے بہت قریب ہونا اور سے چمٹ جانا، کو نقصان پہنچانا۔

۵۔ أَضَرَّ إلیه و علیه: کی طرف جلدی کرنا ـــ یعدو: دوڑتے ہوئے رفتار تیز کرنا۔ ـــ علی السیر الشدید: تیز رفتاری برداشت کرنا۔ الضریر: صبر، صابر، کہتے ہیں: انه ضَرِیرٌ و ذو ضَرِیر علی الشیء: وہ اس بات پر صبر کرنے والا اور اسے برداشت کرنے والا ہے۔ نیز کہتے ہیں: ناقة ذات ضَرِیر: بہت دیر سے تھکنے والی اونٹنی۔

۶۔ الضَرّ: (عام لوگوں کے استعمال میں) [illegible] چیونٹی۔ (صحیح الذرّ ہے)۔ الضَرَّة: پستان کی جڑ، پستان یا تھن، بہت مال۔ الضَرَّتان: چکی کے دونوں پاٹ۔ الضَرِیر: وادی کا کنارہ، نفس، بقیہ جسم۔

ضَرَّ ۔ضَرًّا (ہ/ ہ): کو نقصان پہنچانا، کمزور کرنا، تکلیف پہنچانا، زخمی کرنا، کے لئے نقصان دہ، ضرر رساں ہونا۔ ضَارَّ ہ/ہ: کو نقصان پہنچانا، کمزور کرنا۔ تکلیف دینا، زخمی کرنا، کے لئے نقصان دہ اور ضرر رساں ہونا۔ اضَرَّ ہ/ ہ/ب: کو نقصان پہنچانا، کمزور کرنا، زخمی کرنا، کیلئے نقصان دہ و ضرر رساں ہونا۔ ـــ ہ علی: کو پر مجبور کرنا۔ ـــ ہ: پر تشدد کرنا، پر دباؤ ڈالنا، پہلی بیوی پر دوسری بیوی لانا۔ تَضَرَّرَ: نقصان اٹھانا، زخمی ہونا۔ ـــ من: کی یا کے متعلق شکایت کرنا۔ اِضَّرَّ: بمعنی تضرّر۔ إِضْطَرَّ ہُ إلی: کو پر مجبور کرنا۔ أُضْطُرَّ الی: پر مجبور کیا جانا۔ ـــ ہنگامی صورت حال میں ہونا، ناگہانی ضرورت پیش آنا، سخت دباؤ میں ہونا۔ ـــ إلی: کی اشد ضرورت ہونا، کا ضرورت مند ہونا، کی ضرورت رکھنا۔ ضُرّ و ضَرّ: نقصان، تکلیف، زخم، چوٹ، گھاٹا۔ ضُرّ: گھر میں پہلے بیوی کے ہوتے دوسری بیوی لانا۔ ضَرَّة جمع ضَرَّات و ضرائر: سوت، سوتن، تھن۔ ضَرَر جمع أضرار: نقصان، گھاٹا، خسارہ۔ ما الضَرَر؟: اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا کیا نقصان ہے؟ - أخَفُّ الضَرَرین: دو برائیوں میں سے چھوٹی برائی۔ ضَرَّاء: تکلیف، عسرت، مفلسی، آفت، مصیبت، ادبار، نحوست۔ فی السرَّاء و الضرَّاء: اچھے اور برے دنوں میں۔ ضَرِیر: اندھا۔ ضَرُورَة جمع ضَرُورات: ضرورت، مشکل، تکلیف، دباؤ، مجبوری، پابندی، حاجت، عسرت مفلسی، بری حالت، ناگہانی ضرورت، احتیاج، درشتی۔ ضرورةً و بالضرورة: لازماً۔ عند الضرورة: ضرورت پڑنے پر، اگر ضروری ہو۔ للضرورة القُصوَی: سخت ضرورت کی حالت میں، بدترین صورت حال میں۔ للضرورة أحكامٌ اور الضرورات تبیح المحظورات: ضرورت کسی قانون کو نہیں جانتی۔ ضروری: ضروری، اشد ضروری، مطلوب، ناگزیر، اٹل۔ ضروریات: ضرورتیں، احتیاجات۔ کان من الضروری: ضرور ہونا۔ ضروریات الحیاة: زندگی کی ضروریات۔ ضروریات الاحوال: ہنگامی صورت حالات، صورت حال کی ضروریات۔ مَضَرَّة جمع مَضَرَّات و مَضَار: نقصان، خسارہ، گھاٹا، دقت، دشواری، ناموافق صورت حال (علی کیلئے)۔ إضطرار: مجبوری،

زبردستی، دباؤ، جبر ضرورت، ہنگامی صورت حال، بری حالت، حالت زار، ناگوار صورت حال، ناگہانی ضرورت۔ عند الاضطرار: ہنگامی صورت حال میں، ناگہانی ضرورت پڑنے پر۔ اضطراری: متشددانہ، تشدد آمیز، جابرانہ، لازمی، ناگزیر، اشد ضروری، ضروری۔ ضار و مُضِرّ: نقصان دہ، ضرر رساں، مضرت رساں (ب: کے حق میں، کیلئے)۔ مُضطَرّ الی: پر مجبور، کا حاجتمند، ضرورت مند۔ مُضطَرّ: غریب، مفلس، قلاش۔

ضرأ: ضَرَأَ ۔ضَرْأً الشیءُ: چھپنا۔ انضرأ انضراءً۔ ت الابلُ: اونٹوں میں موت کا واقع ہونا۔ ۔ت الشجرةُ: درخت کا خشک ہونا۔

ضرب: ١۔ ضَرَبَ ۔ضَرْبًا ہُ: کو تلوار یا لاٹھی وغیرہ کی ضرب سے مارنا۔ ۔ت العقربُ: بچھو کا ڈسنا۔ ۔ العدوَّ بقنابل مدافعۃ او بقذائفہ المُدمِّرة: دشمن پر توپوں کے گولے اور تباہ کن بم پھینکنا۔ ضَرُبَ ضَرَابَةً: سخت مار والا ہونا۔ ضَرَّبَ ہُ: کو بہت مارنا، پیٹنا۔ ضَارَبَ مُضَارَبَةً و ضِرَابًا ہُ: ایک دوسرے پر مار میں غالب آنا، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے پر تلوار مارنا۔ اُضْرِبَ الخبزُ: روٹی کا پکنا۔ تَضَارَبَ القومُ: ایک دوسرے کو مارنا۔ اِضْطَرَبَ القومُ: باہم مار پٹائی کرنا۔ کہتے ہیں اِضطرب حَبْلُہُم: ان میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ الضَّرْبَةُ: اسم مرہ۔ ایک دفعہ کہتے ہیں لا آخذ مالی علیك الا ضربةً واحدةً: میں تمہارے ذمہ واجب الاداتی رقم یکمشت لوں گا۔ الضَّارِب و الضَّرُوب: مارنے والا۔ الضَّرَّاب: بہت مارنے والا۔ اسی سے ہے ضَرَّابةُ الناقوس: گھنٹی بجانے کا ہتھوڑا۔ الضَّرِیب جمع ضُرَبَاء: مارنے والا، مارا ہوا، پٹا ہوا۔ الضَّرِیبَة جمع ضَرَائِب: چوٹ کھایا ہوا جسم کا حصہ، جسے تلوار سے ضرب لگائی گئی ہو۔ ۔ من السیف: تلوار کی دھار۔ المَضْرِب جمع مَضَارِب: مارنے کی جگہ یا زمانہ۔ والمَضْرَب جمع مَضَارِب: تلوار یا تلوار کی دھار، گودے والی ہڈی۔ مَضْرِبَةُ و مَضْرَبَةُ السیف: تلوار کی دھار۔ المِضْرَبُ والمِضْرَاب جمع مَضَارِب: بہت مارنے والا، مارنے کا اوزار جیسے گھنٹی بجانے کا ہتھوڑا۔ المِضْرَبَة: مارنے کا اوزار۔

٢۔ ضَرَبَ ۔ضَرَبًا الشیءُ: چیز کا متحرک ہونا۔ ۔ العرقُ: رگ کا پھڑکنا۔ ۔ الجرحُ او الضرسُ: زخم یا داڑھ میں سخت درد ہونا۔ ۔ فی الماء: پانی پر تیرنا۔ ۔ بیدہ: ہاتھ سے اشارہ کرنا۔ ۔ بالقداح: تیروں کو گھمانا۔ ۔ فی البوق: بگل بجانا۔ ضَرَّبَ ہُ فی الحرب: کو جنگ میں دلیر بنانا اور ترغیب دینا۔ تَضَرَّبَ الشیءُ: چیز کا متحرک ہونا، موج مارنا۔ اِضطَرَبَ: متحرک ہونا، موج مارنا، ایک دوسرے کو مارنا۔ ۔ الامرُ: کسی امر کا خلل پذیر ہونا۔ ۔ من کذا: سے بے آرام ہونا۔ ۔ فی امورہ: میں متردد و مشکوک ہونا۔ الضَّرْب جمع ضُرَاب: تیز ذہن، سرگرم شخص۔ المُضْرِب و المُضْرِبَة من الحیات: بے حرکت سانپ۔

٣۔ ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الصلاةَ: نماز قائم کرنا۔ ۔ الخیمةَ: خیمہ نصب کرنا۔ ۔ اللیلُ: رات کا لمبا ہونا۔ ۔ت العنکبوتُ نسیجَها: مکڑی کا جالا تننا۔ ۔ بنفسہ الارضَ: میں اقامت کرنا، سفر کرنا (ضد)۔ ضَرَّبَ المظلّةَ بالخیوط: دھاگوں سے چھتری کو مضبوط کرنا۔ أضْرَبَ فی المکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ الضَّارب جمع ضَوَارِب: لمبی تاریک رات، پست زمین جس میں درخت ہوں، وادی نما۔ المِضْرَب جمع مَضَارِب: بڑا خیمہ۔

٤۔ ضَرَبَ ۔ضَرْبًا ہُ البردُ: کو ٹھنڈا لگ جانا۔ ضَرِبَ ۔ضَرَبًا النباتُ: پودوں کا ہوا یا ٹھنڈ سے مرجھا جانا۔ ضُرِبَت الارضُ: زمین پر کہر گرنا۔ أضْرَبَ القومُ: لوگوں کا پالے سے ڈھک جانا۔ الضَّرْب جمع أضْراب: ہلکی بارش۔ کہتے ہیں مطرٌ ضَرْبٌ: یعنی ہلکی بارش۔ الضَّرِیب جمع ضرائب: پالا، برف۔

٥۔ ضَرَبَ ۔ضَرْبًا علی یدہ: کو روک دینا۔ القاضی علی یدہ: قاضی کا کسی کو اپنے مال کے تصرف سے روک دینا۔ ۔ علی اذنہ: کو سننے سے منع کرنا۔ ۔ عن فلان کذا: کو سے روک لینا۔ ۔ فلانًا عن فلانٍ: فلاں کو فلاں سے روکنا۔ کہتے ہیں: ضَرَبتُ عنہ صفحًا: میں نے اس سے منہ پھیر لیا اور اسے نظر انداز کر دیا۔ ضربتُ عنہ جَرَوَتی: میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے پاس سے چلا گیا۔ ضَرَبَ بذقنہ الارضَ: بزدلی کرنا، خوف کھانا۔ أضرب عنہ: سے اعراض کرنا۔ اسی سے ہے أضْرَبَ العاملُ عن العملِ: کارکن نے ہڑتال کر دی، یعنی کام پر نہیں گیا۔ صفت مُضْرِب م مُضْرِبة۔ الاضراب جمع اضرابات: ہڑتال۔

٦۔ ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الزمانُ: زمانہ گزر جانا۔ ۔ت الطیرُ: پرندہ کا خوراک کی تلاش میں نکل جانا۔ ۔ بنفسہ الارضَ: زمین میں سفر کرنا، اقامت کرنا (ضد)۔ ۔ ضَرْبًا و ضَرَبَانًا فی الارض: تجارت یا غزوہ کیلئے زمین پر سفر کرنا۔ ضَرَبَت عینُہُ: آنکھ کا گڑھے میں بیٹھنا، آنکھ کا اندر دھنس جانا۔ ضَارَبَ ہُ و ضَارَبَ لہ فی المال و بالمال: کے مال سے تجارت کرنا۔ الطیرُ الضوارِبُ: خوراک کے متلاشی پرندے۔

٧۔ ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الشیءَ بالشیءِ: چیز کو چیز سے ملانا۔ ضَرَّبَ الشیءَ بالشیءِ: چیز کو چیز سے ملانا۔ ۔ النجّادُ المُضَرَّبَة: پوشش والے کا رضائی کو سینا۔ ۔ت المرأةُ اللحاف: عورت کا لحاف کو لمبے لمبے ٹانکیں لگا کر سینا (عام زبان میں)۔ الضَّرِیبَةُ من الصوف و نحوہ جمع ضرائب: اون یا روئی کی پونی۔ بساطٌ مُضَرَّب: کمبل۔ المُضَرَّبَة: رضائی۔

٨۔ ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الدرهمَ: درہم ڈھالنا۔ ۔ الخاتمَ: انگوٹھی ڈھالنا۔ ۔ علی المکتوب: خط پر مہر لگانا۔ اِضطَرَبَ فلانٌ: حصہ مقرر کرنے کا مطالبہ کرنا، کچھ ڈھالنے کے لئے کہنا۔ کہتے ہیں: اِضطربتُ خاتمًا من ذهب: میں نے سونے کی انگوٹھی ڈھالنے کا حکم دیا۔ درهمٌ ضَرْبٌ: ڈھالا ہوا درہم۔ دار الضرب: ٹکسال۔ الضریبة جمع ضَرَائِب: طبیعت، عادت۔ کہتے ہیں هذه ضریبته التی ضُرِبَ علیها: یہ اس کی عادت ہے جو اس کی جبلت میں داخل ہے۔ المَضْرِب جمع مَضَارِب: اصل۔

٩۔ ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الاجلَ: مدت مقرر کرنا۔ ۔ المثلَ: مثال بیان کرنا۔ ۔ لہ سهمًا من مالہ: کے لئے اپنے مال سے حصہ مقرر کرنا۔ ضُرِبَ ذلك مثلًا: کو مثال بنایا جانا۔ الضَّرْب (مص) جمع ضِراب: مثل، شکل، قسم۔ ۔ جمع ضُرُوب و اضراب و أضْرُب فی العروض: علم عروض میں دوسرے مصرعے کا آخری جزء۔ اس کی مثال شاعر کے قول میں دیکھیے۔

فِیْ فَمِیْ مَاءٌ وَهَلْ یَنْ
طِقُ مَنْ فِیْ فِیْهِ مَاءُ

(میرے منہ میں پانی ہے۔ کیا جس کے منہ میں پانی ہو وہ بول سکتا ہے؟) اس شعر کے دوسرے مصرعہ میں (فیہ ماء) ضرب ہے۔ الضَّرِیب جمع ضرائب: قسم، مثل، شکل، آدمی کی ہیئت، حصہ۔

١٠۔ ضَرَبَ ۔ضَرْبًا الجزیةَ علیهم: پر جزیہ لگانا، عائد کرنا۔ ۔ علیهم الذلّةَ: کو ذلیل کرنا۔ الضریبة جمع ضرائب: جزیہ۔

١١۔ ضَرَبَ ۔ضَرْبًا بینهم: لوگوں کے درمیان فساد

کرانا۔ ـ الدهرُ بيننا: کو جدا کرنا ضَرَّبَ بينهم: کو بھڑکا دینا۔ الضَّربة: فساد، آفت ضَرَبَانُ الدهر: حوادثِ زمانہ۔

١٢ ضَرَبَ ـضَربًا اليه: کی طرف مائل ہونا أَضْرَبَ: سر جھکانا۔ کہتے ہیں أَضْرَبَ جاشًا لأمرِ كذا: اپنے آپ کو ذہنی طور پر کیلئے تیار کرنا، جی میں ٹھان لینا کہ کا مصمم ارادہ کرنا۔

١٣ ضَرَبَ ـضَربًا الحاسبُ كذا في كذا: کو سے ضرب دینا۔ ـ ن في ك (ع ح): علم حساب میں مثلاً ایسے اعداد کو جو "ن" کے برابر ہوں "ک" میں جمع کرنا۔ جیسے ١٣×٣ = ١٣+١٣+١٣=٣٩۔ ١٣ کو مضروب اور ٣ کو مضروب فیہ کہتے ہیں، جب کہ ٣٩ جداء یا حاصل ضرب ہے۔ ـ ب، ج د ه: اس میں ب کو ج سے پھر اس کے حاصل کو ج سے پھر اس کے حاصل کو د سے پھر اس کے حاصل کو ه سے ضرب دینا۔ اس میں حاصل ضرب (جداء) متغیر نہیں ہوتا۔ اگر ب، ج د ه کی ترتیب تبدیل ہو جائے۔ ب ج د ه کو مضاریب، عوامل، اضلاع کہا جاتا ہے۔

١٤ اِستَضرب العسلُ: شہد کا سفید اور گاڑھا ہونا الضَّرَبُ و الضَّرَب: سفید اور گاڑھا شہد۔

٭ ضَرَبَ ـضَربًا ه/ه ب: کو سے مارنا، چوٹ لگانا۔ ـ ب علي: سے پر مارنا۔ ـ ه علي: کو پر مارنا؛ ـ د/ه: کو نشانہ کرنا، پر فیر کرنا، پر گولہ باری کرنا، گولہ اندازی کرنا۔ ـ ه و علي: (باجا وغیرہ) بجانا، (ٹائپ رائٹر پر) ٹائپ کرنا، ـــ: (بچھو کا) ڈسنا۔ ضرب بين: کو جدا کرنا۔ ـ ه علي: کچھ کسی شخص یا چیز پر عائد کرنا۔ ـ عن: سے منہ موڑنا، سے الگ ہونا، کو چھوڑ دینا، سے پہلو بچانا، کنی کترانا، احتراز یا گریز کرنا۔ ـ ضربًا و ضَرَبَانًا: (رگ دل کا) دھک دھک کرنا، دھڑکنا، (زخم، دانت کا) بہت دکھنا، درد کرنا؛ حرکت کرنا، ہلنا۔ ـ في: میں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھرنا، منہ اٹھائے پھرنا، گشت کرنا، سفر کرنا؛ (گلیوں میں) کوچہ گردی کرنا، سیر کرنا، چہل قدمی کرنا۔ ـ: (جہاز کا) بحری سفر کرنا؛ (پرندے کا) گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم علاقے کو چلے جانا ضرب إلى: مائل ہونا (رنگ کا)، ایک رنگ سے دوسرے رنگ میں بتدریج بدلنا، (جیسے مائل بہ سرخی، یا مائل بہ سیاہی ہونا) ضرب ضرابًا ها: (اونٹنی) کو ڈھکنا، اونٹنی پر سوار ہونا ضَرَبَ له اجلا: کیلئے تاریخ مقرر کرنا ضَرَبَ الارزَّ: چاول نکالنا، چاول کا چھلکا اتارنا ضَرَبَ في الارض: سفر کرنا۔

ضرب بويةً علي: کو لیپنا، پوتنا، پر استرکاری کرنا، پر روغن کرنا ضَرَبَ الباب: دروازہ کھٹکھٹانا، ضرب خطا: لکیر کھینچنا ضرب الجرس: گھنٹی بجانا ضرب حَقْنًا: پچکاری لگانا، انجکشن دینا۔ ضرب اخماسا لاسداس اور ضرب اخماسَهُ في أسداسِهِ: دماغ پر بہت زور دینا، غم و اندوہ سے سوچنا کہ کوئی راہ نجات ملے، سمجھ میں نہ آنا کہ کیا کرے، بدحواس ہو جانا، ساز باز کرنا، سازش کرنا، ہوائی قلعے تعمیر کرنا، دن میں خواب دیکھنا ضرب خيمة: خیمہ نصب کرنا۔

ضرب الرقمَ القياسي: ریکارڈ توڑنا ضرب السلام: فوجی سلامی دینا ضرب ضريبةً علي: پر ٹیکس عائد کرنا ضرب اطنابَهُ في: میں جڑ پکڑنا، جم جانا، مستحکم ہونا، رواج ہونا، عام ہونا ضرب اطنابه علي: میں آباد ہو جانا، مستقل رہائش اختیار کرنا۔

ضَرَبَ طُوبًا: اینٹ بنانا ضرب عددا في آخر: ایک عدد کو دوسرے سے ضرب دینا ضرب عنقه: کا سر قلم کرنا، کو قتل کرنا، مار ڈالنا، کی گردن مارنا، کا سر کاٹ ڈالنا ضرب قالبَهُ: کی نقالی کرنا، کا نمونہ اتارنا، کا سا بنانا، کا چربہ اتارنا ضرب ه كفًّا: کے چہرے پر تھپڑ مارنا، کو تھپڑ لگانا، طمانچہ مارنا، چپت رسید کرنا ضرب مثلًا ل: پر کوئی ضرب المثل چسپاں کرنا ضرب له مثلًا: کو مثال دینا، کے لئے نمونہ پیش کرنا یا نمونہ کا حوالہ دینا ضرب مثلًا: مثال دینا۔ ـ ه ل یا ب عـ ی: کے لئے کسی چیز کو بطور مثال پیش کرنا ضرب الامثال: دانائی کی باتیں بتانا، اخلاقی اصول واضح کرنا ضرب نقودًا: سکے ڈھالنا (نوٹ چھاپنا) ضرب موعدا: ملاقات کے وقت یا جگہ پر اتفاق کرنا، ملاقات کا وقت مقرر کرنا ضرب إلى الحمرة يا إلي الصفرة: سرخی مائل ہونا، سفیدی مائل ہونا ضرب به الارض: کو زمین پر پھینکنا۔

ضرب في الخيال: غیر حقیقی یا خیالی ہونا، اپنے خیالوں میں مستغرق یا عالم خیال میں ہونا، ناممکن کا خواہاں ہونا ضرب براسه علي صدره: اپنے سر کو سینہ پر جھکا دینا ضرب بسهم مصيب في: میں عملی حصہ لینا ضرب بسهم و نصيب في: میں شرکت کرنا، میں شریک ہونا، حصہ دار ہونا ضرب فيه بعِرقٍ: میں شریک ہونا، حصہ دار ہونا ضرب به عُرضَ الحائط: کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، مسترد کرنا، ترک کر دینا، سمندر میں پھینک دینا ضرب بنظره إلي: پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا ضرب بوجه صاحبه: الٹا گلے پڑنا ضرب علي كلمة: لفظ

مٹانا، کاٹ ڈالنا، محو کرنا۔ ضرب عنه صَفحًا: کو دور کر دینا، نظر انداز کر دینا، پر کوئی توجہ نہ دینا، چھوڑ جانا۔

ضرب في حديد بار: بے اثر و نتیجہ اقدامات کرنا۔

ضربَ بيني و بينه الايام: قسمت نے مجھے اس سے جدا کر دیا یا ہم دونوں کو الگ کر دیا۔ ضرب لنفسه سَبعةَ ايَّام: اس نے سات دن قیام کرنے کا فیصلہ کیا ضَرَّبَ ه ب: کو کے ساتھ ملانا، میں کی آمیزش کرنا ضَرَّبَ بين: میں اختلاف رائے پیدا کرنا، نااتفاقی، ان بن یا نزاع کا بیج بونا، میں پریشانی کا باعث ہونا ضَرَّبَ ه: لحاف، رضائی سینا ضارَبَ ه: سے لڑنا، جھگڑنا، مقابلہ کرنا ضارَبَ: سٹہ کرنا۔ أَضْرَبَ عن: سے روگردانی کرنا، منہ موڑنا، کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، سے کنی کترانا، سے بچنا أَضرب في: میں رہنا، قیام کرنا، اقامت گزین ہونا أضرب جاشًا ل: کے لئے تیار و آمادہ ہونا، کو کرنے کا مصمم ارادہ کرنا أضرب صفحًا عن: سے اجتناب کرنا، باز رہنا أضرب (عن العمل): کام کرنا بند کر دینا، ہڑتال کرنا أضرب عن الطعام: بھوک ہڑتال کرنا تضارب: ہاتھا پائی پر اتر آنا، جھگڑا کرنا، دنگا کرنا، لڑائی کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، پیٹنا (آراء وغیرہ کا)۔ منقسم ہو جانا، اختلاف کرنا، باہم دگر آویزاں ہونا، اختلاف رائے رکھنا، اختلاف رکھنا، متصادم ہونا، متضاد ہونا اضطرب: (لہروں کا) متصادم ہونا، امڈ آنا، زمی سے ٹکرانا؛ کام بے چینی یا گڑبڑ کی حالت میں ہونا، افراتفری، ہنگامہ، ہل چل، جوش، بے چینی، اضطراب، بیقراری یا کہرام کی حالت میں ہونا، ہیجان زدہ ہونا، پریشان ہونا، تیز ہلچل میں ہونا، ادھر ادھر ہلنا، دوڑ دھوپ ہونا، کھلبلی پڑنا، افراتفری، دوڑنا، دھکم دھکا ہونا، اندھا دھند دوڑ کرنا، ہلنا جلنا، لڑکھڑا کر چلنا، تھرتھرانا، پریشان ہونا، بے چین ہونا، غیر منظم ہونا، بے ترتیب ہونا، بوکھلانا، الجھنا، درہم برہم ہونا، کانپنا، لرزنا، تھرانا ضرب جمع ضروب: قسم، نوع، نمونہ، مثال، کئی، متعدد جمع اضراب: مانند، مماثل، مشابہ، جیسا ضرب خانه اور دار الضرب: ٹکسال ضرب النار: شوٹنگ، فائرنگ، فیلنگ، کٹنگ، بمباری وضع السلاح تحت الضرب: ہتھیار سے نشانہ باندھنا، فائر کرنے کے لئے تیار ہونا، ہتھیار سنبھالنا هو و اضرابه: وہ اور اس جیسے اور لوگ ضربةُ الشمس: لو کا اثر (sunstroke)۔ سخت گرمی سے نڈھال ہونے کی کیفیت۔ (heat stroke) ضربة قاضية: مہلک یا کاری ضرب

(علی کیلئے) - ضربة جزاء: (فٹ بال میں) پنلٹی کک (penalty kick) - ضِراب: ہم بستری، مباشرت - ضَرِیبة: ٹیکس، محصول، خراج، کردار، طبیعت، مزاج، خو، افتاد طبع جمع ضرائب - ضریبة الدخل: انکم ٹیکس - ضریبه کسب العمل: ورکنگ ٹیکس - ضریبة الملاهی: داخلہ ٹیکس، تفریحی ٹیکس۔

مَضرب جمع مضارب: کیمپ کا موقع یا جگہ، کیمپ، جگہ، موقع، علاقہ، راستہ، بڑا خیمہ - کان مضربَ المَثَل (الامثال): زبان زد خاص وعام ہونا، مثال ہونا، سبق آموز اور عبرت انگیز ہونا، بے مثال، فقید المثال یا منفرد ہونا، مثال کے طور پر پیش کیا جانا - مِضرَب جمع مضارب: بلا (bat)، لکڑی کا ہتھوڑا، موگرا، موگری، ریکٹ (racket) (ٹینس وغیرہ میں) - مِضرَب جمع مضارب: چھوٹی متھنی یا بلونی - مُضارَبة جمع مُضارَبات: سٹہ، خاموش شراکت، محدود شراکت - اِضراب جمع اضرابات: ہڑتال - مُضارِب جمع مُضاربون: سٹے باز - مُضطَرَب: کھیل کا میدان (مجازی) - اضطرابات عصبية: اعصابی بیماریاں۔

ضرج: ۱- ضَرَجَ ضَرْجًا الثوبَ بالدم: کپڑے کو خون آلود کرنا، خون سے لتھیڑنا - ضَرَّجَہٗ: کو خون آلود کرنا - ___ الثوبَ: کپڑے کو سرخی سے رنگنا، لتھیڑنا - ___ الانفَ بالدم: ناک سے خون بہانا - تَضَرَّجَ الشیءُ: چیز کا لتھڑنا - ___ الخدُّ: رخسار کا سرخ ہونا - الضَّرِیج: ہلکا سرخ رنگا ہوا - الاِضرِیج: سرخ ریشم، سرخ رنگ، زرد رنگ کی چادر۔

۲- ضَرَجَ ضَرْجًا الشیءَ: چیز کو پھاڑنا - تَضَرَّجَ: پھٹنا - ___ الزهرُ: پھول کھلنا - انضرج: پھٹنا - ___ لنا الطریقُ: کیلئے راستہ کا چوڑا ہونا - ___ مابین القوم: ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا - المِضرج مَضارِج: پھٹا پرانا مستعمل کپڑا، چیتھڑا - المَضارِج: مشتقتیں - عینٌ مَضرُوجة: بڑی موٹی آنکھ۔

۳- ضَرَجَ ضَرْجًا الشیءَ الی الارض: چیز کو زمین پر ڈالنا - ضَرَّجَ الجیبَ: کھیلا لٹکانا - ___ الابلَ: اونٹوں کو حملہ میں دوڑانا - اَضرَجَ الجیبَ: تھیلے کو لٹکانا - اِنضَرَجَت العُقابُ: عقاب کا اپنے شکار پر جھپٹنا - عَدوٌ ضَرِیجٌ: تیز دوڑ - الاِضرِیج: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

۴- ضَرَّجَ الکلامَ: کلام کو آراستہ کرنا - تَضَرَّجَت المرأةُ: عورت کا آراستہ ہونا۔

۵- الضَّرجَع جمع ضَراجِع (ح): چیتا۔

○ ضرج ضَرَجًا ہ بالدم و ضَرَّجَ ہ بالدم: کو خون کے دھبے ڈالنا، کو خون آلود کرنا - تَضَرَّجَ: خون آلود سرخ ہونا یا ہوجانا - مُضَرَّجُ الیدین: ہاتھوں کے ساتھ، جرم کرتے ہوئے یا ارتکاب جرم کی حالت میں پکڑا ہوا۔

ضرح: ۱- ضَرَحَ ضَرْحًا الشیءَ: چیز کو پھاڑنا - ___ القبرَ: قبر کھودنا - ___ للمیت: میت کے لئے قبر کھودنا - اِنضَرَحَ الشیءُ: چیز کا پھٹنا - الضَّرِیح جمع ضَرائح: قبر۔

۲- ضَرَحَ ضَرْحًا الشیءَ: چیز کو ایک طرف کرنا، ہٹانا - کہتے ہیں: ضَرَحَ شهادةَ فلان عنی یعنی اس نے فلاں کی میرے بارے میں گواہی کو باطل قرار دے کر مسترد کر دیا - و ضَرَحْتُ عنی الثوبَ: میں نے کپڑا اتار ڈالا - ___ ضَرْحًا و ضِراحًا ت الدابةُ برجلها: جانور کا دولتی مارنا - ضارَحَہٗ: ایک دوسرے کو تیر مارنا، گالی دینا، کے قریب ہونا اور مقابل ہونا - اَضرَحَہٗ: کو دور کرنا - اِضطَرَحَ الشیءَ: کو پھینک دینا - اِنضَرَحَ ما بین القوم: قوم کا باہمی تعلق ٹوٹ جانا، لوگوں کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع ہوجانا - الضَّرْح: دوری، وحشت - نِیَّةٌ ضَرَحٌ: فاسد ارادہ - الضَّرُوح من الدواب: دولتی مارنے والا جانور - قوسٌ ضَرُوحٌ: تیز زور سے پھینکنے والی کمان - الضَّرِیح جمع ضَرائح: دور، بعید۔

۳- ضَرَحَ ضُرُوحًا و ضَرَحَت السوقُ: کساد بازاری ہونا - اَضرَحَ السوقَ: کساد بازاری کرنا۔

۴- اَضرَحَہٗ: کو خراب کرنا - الضَّرَح: خراب آدمی۔

۵- الضَّرح: جلد، کھال، چمڑا - المَضرَحُ (ح): شکرا، لمبے بازوؤں والا گدھ - المَضرَحِی: شکرا، لمبے بازوؤں والا گدھ، فیاض سردار - المَضرَحِی: ہر سفید چیز۔

○ ضَرِیح جمع ضَرائح و اضرحة: قبر، مقبرہ۔

ضرس: ۱- ضَرَسَ ضَرْسًا الشیءَ: کسی چیز کو داڑھ سے شدت کے ساتھ کاٹنا - کہتے ہیں: ضَرَسَهُ الدهرُ: زمانہ اس کے لئے ناقابل برداشت ہوگیا - ضَرَسَتْهُ الخُطُوبُ: بدقسمتیوں اور حوادث نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا - ___ البئرَ: کنویں کو پتھروں سے بند کرنا - ___ الرجلُ: شام تک خاموش رہنا - ضَرِسَ ضَرَسًا ت الاسنانُ: دانتوں کا ترشی سے کھٹا ہونا - ضَرَّسَہ الزمانُ: کو زمانہ کا آزمائش میں ڈالنا - ___ تہٗ الحروبُ او الایام: جنگوں یا دنوں کا کسی کی آزمائش کر کے تجربہ کار بنا دینا - ضارَسَ الامورَ: کا تجربہ کرنا اور جاننا - ___ ہٗ: سے جنگ کرنا، دشمنی کرنا - اَضرَسَہٗ بالکلام: کو باتوں سے خاموش کر دینا - ___ ہٗ: کو رنجیدہ کرنا - ___ الحامضُ الاسنانَ: ترشی کا دانتوں کو کھٹا کر دینا - تَضارَسَ القومُ: ایک دوسرے سے لڑنا، دشمنی کرنا - ___ البناءُ: عمارت کا ناہموار ہونا۔

الضِّرس جمع اَضراس ضُرُوس (ع ا): داڑھ دانت، مشہور یہ ہے کہ نچلے جبڑے میں دونوں طرف پانچ یا چار داڑھیں ہیں - ___ جمع ضُرُوس: کنواں پاٹنے کا پتھر، دشوار چڑھائی والا ٹیلہ - الضَّرِس: سخت مزاج، تجربہ کار، جنگجو اور مسافر، بھوک کے سبب غضبناک - الضَّرُوس من النوق: وہ بدخلق اونٹنی جو دوہنے والے کو کاٹے - حربٌ ضَرُوسٌ: سخت مہلک جنگ - الضَّرِیس جَرَاسی: پیپے کے منکے، پتھروں سے پاٹا ہوا کنواں، بھوکا - المُضَرَّس (مفع): مصیبت زدہ - ___ من الوشی: وہ کپڑا جس پر دانتوں کی طرح کے نقوش ہوں - رجلٌ مُجَرَّسٌ مُضَرَّسٌ: تجربہ کار - التَّضرِیس جمع تَضارِیس: یاقوت یا موتی یا داڑھ کی طرح کے لکڑی کے ٹکڑے میں چیرا - تضاریس الارض: دانتوں کی طرح زمین کی باہر نکلی ہوئی بلندیاں۔

۲- الضِّرس جمع ضُرُوس: تھوڑی سی بارش - کہتے ہیں: وقعت فی الارض ضُرُوسٌ من مطر: زمین پر کہیں کہیں تھوڑی سی بارش ہوئی۔

ضرص: الضِّرْضِم (ح): شیر نر (درندہ)۔

○ ضَرِسَ - ضَرَسًا ہ: کو سختی سے دانتوں سے کاٹنا - ضَرِسَ ضَرَسًا: (دانتوں کا) ترش چیزیں کھانے یا پینے سے کند ہوجانا - ضَرَّسَ ہٗ: کو سختیاں جھیل سکنے والا بنانا، جنگجو بنانا - ___ و اَضرَسَ الاسنانَ: (ترش اشیاء ماکولات و مشروبات کا) دانتوں کو کند کر دینا۔

ضِرس جمع اضراس و ضروس: داڑھ - ضرس العقل: عقل داڑھ - حرب ضَرُوس: شدید قاتلانہ جنگ - تضاریس الارض: سطوح مرتفع زمین کے نشیب و فراز - تضاریس الوجه: چہرے کی جھریاں۔

ضرط: ۱- ضَرَطَ ضَرْطًا و ضَرِطًا و ضُراطًا و ضَرِیطًا: گوز کرنا، پاد مارنا - ضَرَّطَ الحمارَ: گدھے کا بہت گوز کرنا - ___ و اَضرَطَ الحمارَ: گدھے سے ایسا کام لینا کہ اس کا گوز خارج ہو جائے - ___ بفلان: سے ٹھٹھے کے طور پر منہ سے گوز کی سی آواز نکالنا - الضُّراط و الضُّرُوط و الضِّرَّوْط:

گوز کرنے والا، بہت گوز کرنے والا۔

۲۔ ضَرِطَ ضَرَطًا: ہلکی داڑھی اور باریک ابرو والا ہونا۔ صفت: اَضْرَط۔

۳۔ مُضَرِّطُ الحجارة: حیرہ کے بادشاہ عمرو بن ھند کا لقب۔

ضرع: ضَرَعَ ضُرُوعًا من الشیء: سے قریب ہونا۔ — ت الشمسُ: آفتاب کا غروب ہونا یا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ ضَرَعَ من فلان: چپکے چپکے کسی کے قریب آنا۔ — الشمسُ: سورج کا غروب ہونا یا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ — ت القِدرُ: ہانڈی کا پکنے کے قریب ہونا۔ السَّرْبُ: شیرہ کو اچھی طرح نہ پکانا۔ ضارَعَ ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے لگنا۔ — ت القِدرُ: ہانڈی کا پکنے کے قریب ہونا۔ تضرَّعَ: چپکے چپکے قریب آنا۔ — الظِلّ: سایہ کا سکڑنا۔

۲۔ ضَرَعَ - ضَرْعًا فرسَهُ: گھوڑے کو سدھانا۔ ضَرَاعَةً و ضَرِعَ - ضَرَعًا و ضَرُعَ - ضَرَاعَةً: کمزور ہونا۔ — الیه: سے فروتنی کرنا، انکساری کرنا۔ صفت: ضَارِعٌ و ضَرِعٌ۔ جمع ضَارِعُون و ضُرُوع و ضَرَعَة۔ اَضْرَعَ الرجلَ: کو ذلیل کرنا۔ — ت الحُمّٰی فلانًا: بخار کا کسی کو کمزور کر دینا۔ اسی سے یہ مثل ہے: الحمّٰی اَضرعتنی للنوم: بخار نے مجھے نیند کے آگے ذلیل کر دیا۔ ضرورت کے وقت ذلیل ہونے کے موقع پر بولی جاتی ہے۔ — ته الحاجة إلی فلان: ضرورت کا کسی کو اپنے معاملات سپرد کر دینا۔ — لفلان مالاً: کے لئے مال خرچ کرنا۔ تضرَّعَ: فروتنی کرنا، انکساری کرنا، ذلیل ہونا۔ — إلی اللّٰه: اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا۔ اِسْتَضْرَعَ له: سے انکساری کرنا، کے سامنے ذلیل ہونا۔ الضَّرَع (مص) کمزور، بزدل۔ کہتے ہیں: رجُلٌ ضَرَعٌ: بزدل مرد۔ قومٌ ضرَعٌ: بزدل لوگ۔ الضَارِع: کمزور نحیف، ہر چھوٹی چیز۔ الاَضْرَع: کمزور نحیف۔ الضُرُوع: ذلیل۔

۳۔ ضَارَعَ هُ: کے مشابہ ہونا۔ تضارَعَا: دو کا ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ الضِّرع جمع ضُرُوع: مثل مانند۔ المُضارِع: مشابہ، وہ فعل جو زمانہ حال و مستقبل دونوں کے معنی دے اور ماضی پر انیتُ میں سے ایک حرف زائد کرنے سے بنتا ہے۔ علم عروض کی ایک بحر کا نام۔

۴۔ اضرع ت الشاةُ: بکری کے تھنوں کا نمودار ہونا یا بڑا ہونا۔ (صفت: ضَرْعاء و ضُرُوع و ضَرِیع و ضَرِیعة: بچہ پیدا ہونے سے پہلے دودھ اتر آنا۔

الضَّرْع جمع ضُرُوع: تھن۔ (گائیوں بھیڑ بکریوں کا جیسے عورت کا پستان: الثدی)۔ الضَّرْعاء و الضریعة من الشاء و البقر: بڑے تھن والی بکری یا گائے۔ الضَّرُوع: بڑے تھن والی بکری یا گائے۔

۵۔ الضِّرْع جمع ضُرُوع: قوت حمل۔

◯ ضَرْع جمع ضُرُوع و ضِرَاع: تھن۔ الزرع و الضرع: کاشتکاری اور مویشی پالنا۔ ضَرْع: جیسا، مانند، مثل۔ ضَرَاعة: فرمانبرداری، اطاعت شعاری، انقیاد، عاجزی، انکساری، فروتنی، عجز و انکسار، التجاء، بھیک مانگنا۔ مُضارَعة: مشابہت، مماثلت۔ ضارِع: کمزور، اخلاقی لحاظ سے کمزور۔ تضرُّع: التجاء کرنا، بھیک مانگنا، التماس۔

ضرغ: ضَرْغَمَ و تضَرْغَمَ: شیر کا سا کام کرنا، شیر کے مشابہ ہونا۔ الضَّرْغَم جمع ضَرَاغِم (ح): شیر۔ الضِّرْغام و الضِرغامة (ح): شیر، بہادر، طاقتور۔

ضرف: ۱۔ الضَّرْف عند العامة: گھی یا تیل رکھنے کا چمڑے وغیرہ کا برتن، اِسکا مترادف (زق) مشک ہے، صحیح ظرف ہے۔ الضَّرْفة: کثرت۔ کہتے ہیں: هو فی ضرفةِ عیش: وہ آسودہ حال ہے۔

۲۔ ضَرْفَطَهُ بالحبل: کو رسیوں میں جکڑنا۔

ضرك: ضَرُكَ - ضَرَاكةً: بے وقوف یا موٹا اور توانا ہونا۔ الضُّراك: موٹا آدمی، مضبوط توانا آدمی۔ (ح): شیر۔ الضَّرِیك جمع ضَرائك و ضَرْكاء: بے وقوف، اندھا، سدا روگی، زبوں حال غریب شخص۔ (ح): نرگدھ۔

ضرم: ۱۔ ضَرِم - ضَرَمًا: سخت بھوکا یا غضبناک ہونا۔ — علیه: پر غصہ سے بھڑکنا۔ — فی الطعام: حرص سے کھانا۔ تَضَرَّمَ الرجلُ علیه: پر غصہ سے بھڑکنا۔ الضَّرَم (مص): بھوک کا غصہ۔ الضَّرِم: بھوکا۔

۲۔ ضَرِمَ - ضَرَمًا ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ ضَرَّمَ و اَضْرَمَ و اسْتَضْرَمَ النارَ: آگ جلانا اور روشن کرنا۔ تَضَرَّمَ ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ اِضْطَرَمَ ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ — المَشِیبُ: بڑھاپا نمودار ہونا۔ الضَّرَم: ایندھن، اس سے مثل ہے: نفخت فی غیر ضَرَم: جب کوئی بے نتیجہ یا بے فائدہ کام کیا جائے تو اس وقت یہ مثال بولی جاتی ہے۔ الضَّرَمة جمع ضَرَم: چنگاری، آگ، کہتے ہیں: ما فی الدار نافخ ضَرَمةٍ: یعنی گھر میں کوئی بھی نہیں۔ الضِّرام: بھڑک، جلن، چپٹی۔ الضِّرامة: جلتی ہوئی لکڑی۔ الضَّرِیم: جلا ہوا۔

۳۔ الضَّرَم (ن): لیونڈر کا درخت۔ الضِّرم (ن): لیونڈر کا درخت۔ (ح): عقاب کا چوزہ۔ الضَّرَم (ح): عقاب کا چوزہ۔ الضِّرَام: وسیع میدان۔ الضِّرامة (ن): بطم کا درخت۔ الضَّرِیم: ایک قسم کا گوند۔

◯ ضَرِم - ضَرَمًا: آگ پکڑنا، آگ لگنا، جلنا، جل اٹھنا، بھڑکنا، (جنگ کا) یکایک لگ جانا؛ شروع ہونا یا پھیلنا، بھڑکنا۔ ضَرَّم (ہ): آگ جلانا، روشن کرنا۔ ضَرَّمَ النار فی: کو آگ لگانا۔ اضرَم بمعنی ضَرَّم۔ تضرَّم: جلنا، جل اٹھنا، شعلے نکلنا، غصے سے لال پیلا ہونا، (جذبات) کا شعلہ فشاں ہونا۔ ضِرام: آگ، بھابھڑ۔ اضطرام بمعنی ضِرام۔ مُضْطَرِم: جلتا ہوا، شعلہ فشاں۔

ضرا: ضَرَا - ضُرُوًّا العِرقُ: رگ سے بغیر رکے خون نکلنے لگنا۔ ضَرِیَ یَضْرَی ضَرَاوةً و ضَرًی و ضَرْیًا و ضَرَاءً و ضَرَاءَةً بالشیء: کسی چیز کا بہت شوق رکھنا، حریص ہونا۔ — ضَرًی و ضِرَاءً و ضَرَاءً الکلبُ بالصید: کتے کا شکار کا خوگر ہونا، گوشت اور خون کھا پی جانا۔ صفت: ضَرٍ و ضارٍ م ضارِیَة جمع ضَوَارٍ۔ — ضَرِیَ النبیذُ: شراب کا تیز ہونا۔ ضَرَّی الکلبَ بالصید: کتے کو شکار کا عادی بنانا اور سدھانا۔ اَضْرَی الکلبَ بالصید: بمعنی ضَرّی الکلب بالصید۔ — الرجلُ: جھاگ والی نبیذ پینا۔ الضِّرْوُ ضِرْوَة جمع ضِرَاء و اَضْرٍ: شکاری کتا۔ الضَّرِی (مص): لڑائی کی تیزی۔ ضراوة الحرب: جنگ کی تیزی۔ حربٌ ضارِیة: شدید جنگ۔ الضَّرِیّ: ایک قسم کی شراب۔ الضاری من الآنیة: شراب کا برتن۔ الضواری جمع الضاری کی — من الحیوانات: درندے۔

۲۔ ضرا - ضُرُوًّا الرجلُ: چھپنا۔ اِسْتَضْرَی للصید: شکار کو بے خبری میں پکڑنا۔ الضَّرَاء: پوشیدگی۔ کہتے ہیں: هو یمشی الضراء: وہ درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر چلتا ہے) گنجان، گھنا درخت، وسیع کھلا میدان

◯ ضَرِیَ ہ ب: کو کے ساتھ لڑنے پر اکسانا۔ ضَرَاوة: لالچ، طمع، بہت بھوکا ہونا، لذیذ ہونا، بہت شائق ہونا۔ ضارٍ: بہت بھوکا، ندیدہ، بلا کا شائق، سخت لالچی، حریص، سفاک، وحشی جمع ضَوَارٍ: درندے، غارت گر جانور واحد ضارٍ۔

ضری: ضَرَی - ضَرْیًا العِرقُ بالدم: رگ سے خون بہنا۔ صفت: ضَرِیّ۔

ضز: ۱۔ ضَزَّ - ضَزَزًا: تنگ باچھوں والا ہونا۔ اَضَزَّ هُ: کو پیسنا۔ — علیه: پر بخل کرنا۔ الأَضَزّ جع ضُزّ

تنگ باچھوں والا، داڑھوں کے ملنے کی وجہ سے صاف بات نہ کر سکنے والا۔
۲۔ الاضزّ جمع ضُزّ: بدخلق۔ المُضِزّ: بدخلق، غضبناک۔
ضزن: ضَزَنَ ۔ضَزْناً ہُ: سے کچھ چھیننا۔ تضازَنَ القَومُ: کسی چیز پر قبضہ کیلئے جھگڑنا۔ الضَّیزَن: قابل وثوق محافظ انسان کے بال بچے، شریک، پانی بھرتے ہوئے جھگڑنے والا۔
ضع: ضَعْضَعَ ہُ: کو گرا کر زمین کے برابر کر دینا۔ تَضَعْضَعَ: ذلیل ہونا، فرمانبرداری کرنا۔ (کہتے ہیں: تَضَعْضَعَ به الدهرُ: زمانہ نے اُسے ذلیل کر دیا) کمزور ہونا، بیماری یا غم سے کمزور اور خفیف الجسم ہو جانا۔ ـــ مالُهُ: کا مال کم ہو جانا، تھوڑا ہو جانا۔ الضُّعْضُع و الضُّعْضاع: ہر کمزور چیز، بے رائے و تدبیر آدمی۔ الضَّعْضَعَة (مص): شدت، انکساری۔
ضَعْضَعَ ہ: کو مسمار کرنا، تباہ کرنا، گرانا، کی اندر ہی اندر جڑیں کھوکھلی کرنا، کو کمزور کرنا۔ تَضَعْضَعَ: کمزور ہونا، رو بتنزل ہونا، زوال میں آنا، برباد ہونا، شکستہ ہونا، فنا ہونا، کمزور یا کمزور تر ہونا، رو بہ انحطاط ہونا، (تنظیم وغیرہ) کا ٹوٹنا، برخاست ہونا۔ ضَعْضَعَة: مسماری، جڑیں کھوکھلی کرنا، ضعف، ناتوانی، خرابی، صحت، ارادے کی کمزوری، ضعف ہمت، کمزوری۔ ضَعْضَعَةُ الكِبَر: ضعیفی، سٹھیا جانا، ٹھیاپا۔ مُتَضَعْضِع: شکستہ، زوال میں آیا ہوا، کمزور، ناتواں، فرمانبردار، منقاد، منکسر المزاج۔
صعط: ضَعَطَ ۔ضَعْطاً ہُ: کو ذبح کرنا۔
ضعف: ۱۔ ضَعَفَ ۔ضَعْفاً و ضُعْفاً و ضَعُفَ ۔ ضَعافَةً و ضَعافِيَةً: کمزور ہونا، ناتواں ہونا۔ ضَعَّفَ ہُ: کو کمزور کرنا۔ ـــ الحدیثَ: حدیث (بات) کو ضعیف کی طرف منسوب کرنا۔ ـــ و تضعَّفَ و استضعَفَ ہُ: کو ضعیف پانا یا خیال کرنا۔ أضعَفَ ہُ: کو کمزور کرنا۔ صفت مفعولی مَضعوف: جب کہ قیاس کے مطابق مُضعَف ہونا چاہئے، اسکی مثال یہ قول ہے: أسعَدَهُ اللهُ: چنانچہ وہ شخص مسعود کہلاتا ہے نہ کہ مُسْعَد۔ ـــ الرجلُ: کمزور جانوروں والا ہونا۔ الضَّعف: کمزوری، ناتوانی (عوام کے نزدیک مرض۔ الضُّعف: کمزوری۔ الضَّعَف: کمزوری، عقل اور رائے کی کمزوری۔ الضَّعفان جمع ضَعافَى و الضَّعوف: کمزور۔ الضعیف جمع ضِعاف و ضُعَفاء و ضَعَفَة و ضَعفَى م ضعیفة: کمزور۔ ـــ من الكلام: درجہ فصاحت سے گرا ہوا کلام۔ (عوام کے نزدیک) مریض۔ کہتے ہیں ھُوَ ضعیف یعنی وہ بیمار ہے۔ ارضٌ مُضَعَّفَة: وہ زمین جہاں ہلکی بارش ہوئی ہو۔
۲۔ ضَعَفَ ۔ضَعْفاً القومَ: سے زیادہ ہونا، دوگنا یا کئی گنا ہو جانا۔ ـــ الشیءَ: کو دو چند کرنا۔ ضَعَّفَ و ضاعَفَ و اضعَفَ ہُ: کو دوگنا کرنا، دوچند کرنا۔ تضاعَفَ الشیءُ: دوچند ہونا۔ ضِعفُ الشیء جمع أضعاف: دوگنا، دوچند۔ لوگوں کا کہنا ہے: لكَ ضِعفُهُ: تمہارے لئے اس کا دوگنا یا تین گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کہنا جائز ہے: هذا ضِعفُ هذا: یہ اس جتنا ہے۔ هذا ضعفاهُ: یہ اس کا دوگنا یا دوچند ہے۔ أضعافُ الكتاب: کتاب کی سطور کا درمیانی فاصلہ۔ الاضعاف من الجسد: جسم کے اعضاء یا ہڈیاں۔ مُضاعَف: دوچند، دوگنا (کیا ہوا) کئی گنا کیا گیا۔ المُضاعَفَةُ من الدروع: ایسی زرہ جس کے حلقے دہرے دہرے ہوں۔
ضَعُفَ ۔ضُعْفاً و ضَعْفاً: کمزور ہونا، یا ہو جانا، نرم و نازک ہونا، شکستہ ہونا یا ہو جانا، بے بس ہونا یا ہو جانا، نامرد ہونا یا ہو جانا، مردہ دل، پژمردہ ہونا یا ہو جانا، کم ہونا یا ہو جانا، گھٹنا یا گھٹ جانا۔ أضعَفَ (ہ/ ہ/من): کو کمزور کرنا، لاغر کرنا، ناتواں بنانا، مضمحل کرنا، پر ضعف طاری کرنا۔ استضعَفَ ہ: کو کمزور سمجھنا، کیساتھ تکبر سے پیش آنا۔ ضُعف و ضَعْفُ الارادة: ارادہ کی کمزوری۔ الضعف العصبی: اعصابی کمزوری۔ ضعف التناسل: نامردی۔ ضعیف الارادة: کمزور ارادے والا۔ ضعیف العقل: کمزور دماغ والا۔ ضعیف القلب: کمزور دل۔ هذا الضعیف: یہ ناچیز (اظہار انکسار کے طور پر) مُستَضعَف: جسے کمزور سمجھا گیا، مظلوم، مصیبت زدہ۔ ضَعَّفَ و ضاعَفَ ہ: کو دوگنا کرنا، شدید تر کرنا، کئی گنا کرنا۔ تَضاعَفَ: دوگنا ہونا، دوچند ہونا، کئی گنا ہونا۔ ضِعف جمع اضعاف: دوگنا، دوچند، کئی گنا۔ منه ضِعفُفہ: کا سوگنا۔ ثلاثة اضعافِه: کا تین گنا۔ أضعاف اضعافه: کا کئی گنا۔ اضعافاً مضاعفة: کئی گنا، سوگنا۔ تضاعیف: تحریر کے ٹکڑے کا مضمون، مافیہ، متن، تہیں سطروں کے درمیان جگہ۔ فی تضاعیفه: کے اندر، پر مشتمل۔ مضاعفة: دوگنا یا کئی گنا ہونا یا کرنا۔ مضاعفات: (بیماری) کی پیچیدگیاں۔ تضاعف: دوگنا یا کئی گنا ہونا۔ مُضَعَّف: دوگنا، کئی گنا۔ مُضاعَف: دوگنا، کئی گنا۔
ضعل: ضَعِلَ ۔ضَعَلاً: ماں باپ کے آپس میں قریب النسب ہونے سے بچہ کا پتلے جسم والا ہونا۔
ضغا: ضَغا ۔ضُغُوّاً: چھپنا، پوشیدہ ہونا۔
ضغّ: أضَغَّت الارضُ: زمین کا سرسبز و شاداب ہونا۔ ـــ القومُ: سرسبز باغ میں ہونا۔ إضطغَّت الارضُ: زمین کا سرسبز و شاداب ہونا۔ الضَّغیغ: سرسبزی، شادابی، تروتازگی۔ الضغیغة: سرسبز و شاداب باغ، آسودہ و خوش حال زندگی، پتلا گوندھا ہوا آٹا، مخلوط لوگوں کی جماعت۔
۲۔ ضَغضَغَ الشیخُ اللقمةَ: بے دانت بوڑھے کا لقمہ کو چبانا، مسوڑھوں سے لقمہ چبانا۔ ـــ الرجلُ: غیر واضح کلام کرنا۔ ـ الكلامَ: کلام کو زیادہ کرنا۔
ضغب: ۱۔ ضَغَبَ ۔ضَغْباً: بھیڑیے یا خرگوش کی طرح آواز نکالنا، ڈرانا۔ الضَّغیب و الضُّغاب: خرگوش اور بھیڑیے کی آواز۔
۲۔ الضُّغبُوس جمع ضَغابیس (ح): لومڑی کا بچہ، کمزور آدمی۔
ضغث: ضَغَثَ ۔ضَغْثاً الحدیثَ: گفتگو کو غلط ملط کرنا۔ ـ الشیءَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ ـ الثوبَ: کپڑے کو دھوتے ہوئے اچھی طرح صاف نہ کرنا۔ ضَغَثَ النباتَ: سبزی کے مٹھے بنانا۔ اضغَثَ الحالِمُ الرؤیا: خواب دیکھنے والے کا اپنا خواب گڈمڈ کر کے بیان کرنا۔ إضطغَثَ الحطبَ: لکڑیاں اکٹھی کرنا، جمع کرنا۔ الضِّغثُ جمع اضغاث: سبز و خشک گھاس کا مٹھا۔ ـ من الخبر و الامر: گڈمڈ اور بے حقیقت خبر یا معاملہ۔ أضغاثُ احلامٍ: گڈمڈ، غیر واضح خواب جن کی حقیقت بیان نہ کی جا سکے۔ اس سے مثل ہے: ضِغثٌ علی إبّالة: مصیبت پر مصیبت، سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ کلام ضَغثٌ و ضَغْثٌ: نامبارک کلام۔ التضغیث (مص): بارش جس سے زمین اور نباتات بھیگ جائیں۔
ضَغَثَ ۔ہ: (قصہ) کو گڈمڈ کرنا۔ اضغاث الاحلام: گڈمڈ خواب۔ زادَ ضِغثاً علی إبّالة: کسی چیز یا بات کو زیادہ خراب کر دینا۔
ضغط: ضغط ۔ضغطاً و اضغط ہُ: بھینچنا، نچوڑنا، بھیڑ کرنا، دبانا، نئے ادباء اس فعل کو علی کے صلہ سے متعدی بناتے ہیں۔ اور ضغط ہ کے بجائے ضغط علیہ کہتے ہیں۔ ضاغَطَ ضِغاطاً و مُضاغطةً ہُ: ایک دوسرے کو بھینچنا، تنگ کرنا۔ تضاغَطوا: ایک دوسرے کو بھینچنا، تنگ کرنا۔ إنضغَطَ: مغلوب ہونا۔ إضتغط علَیه: قیاس کے مطابق اضطغط) پر سختی کرنا۔ الضُّغطة: تنگی، مجبوری، سختی، بے آرامی۔ کہتے ہیں: اخذتُ فلانا ضغطة: تو نے اس پر سختی کی تاکہ اسے مشکلات

میں پھنسائے۔ الضغطة: اضطرار، تنگی، مصیبت، قہر۔ ضغطة القبر: قبر میں میت پر تنگی۔ الضاغط (فا): محافظ، نگہبان۔ الضاغوط: کابوس کی بیماری۔ الضغیط جمع ضغطی م ضغیطة: کمزور رائے والا۔ المضغط جمع مضاغط: پست زمین۔ المِضغط: کمپریسر (compressor)۔

○ ضغط ـ ضغطًا (ہ/ہ): کو دبانا، نچوڑنا۔ ـ (ہ): کو سکیڑنا۔ ـ علی: پر دباؤ ڈالنا، کو کچلنا، دبا دینا، روکنا، روک دینا، ممنوع قرار دینا، پچھاڑنا، زیر کرنا، پر بوجھ ڈالنا۔ انضغط: دبنا، نچڑنا، سکڑنا۔ ضغط: دباؤ، داب، تاکید، زور، کچلنا، امتناع، خاتمہ، وولٹیج voltage، کھچاؤ۔ الضغط الجوی: فضائی دباؤ۔ ضغط الدم و الضغط الدموی: بلڈ پریشر۔ ضغط الهواء: ہوا کا دباؤ۔ تحت ضغط الرأی العام: رائے عامہ کے دباؤ کے تحت۔ ضغطة: دباؤ۔ ضغوطیة: (ہوا کا) دباؤ۔ ضاغوط: کابوس۔ مضاغط هوائیة: کمپریسرز compressors۔ تضاغط: دباؤ، داب۔ انضغاط: دباؤ اور سکڑنے کی قابلیت۔ آلة ضاغطة: کمپریسر compressor هواء مضغوط: سکڑی ہوئی ہوا compressed air۔

ضغم: ضغم ـ ضغمًا الشیءَ و به: کو دانتوں سے کاٹنا۔ کہتے ہیں: ضغمه ضغمة الأسد: اُس نے اُسے دانتوں سے خوب کاٹا۔ الضُغامة: دانتوں سے کاٹ کر پھینکی ہوئی چیز۔ الضیغم جمع ضیاغم: دانتوں سے کاٹنے والا۔ ـ و الضیغمی (ح): شیر۔

ضغن: ۱۔ ضغن ـ ضغنًا علیه: سے کینہ رکھنا۔ ضاغنه: سے کینہ رکھنا۔ تضاغن و اضطغن القوم: ایک دوسرے سے کینہ رکھنا۔ کہتے ہیں: اضطغن فلانٌ علی فلانٍ ضغینةً: یعنی فلاں نے فلاں کے خلاف کینہ اپنے دل میں رکھا۔ الضِغن جمع أضغان: کینہ۔ الضاغن و الضغن: کینہ ور۔ الضغینة جمع ضغائن: کینہ۔

۲۔ ضغن ـ ضغنًا الیه: کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔ الضِغن جمع أضغان: شوق، جھکاؤ، میلان، کجی۔ فرس ضاغن: منھا گھوڑا جو بغیر مارے نہ چلے۔ فرس ضغن: منھا گھوڑا جو بغیر مارے نہ چلے۔ عود ضغن: ٹیڑھی لکڑی۔

۳۔ اضطغنه: کو بغل کے نیچے لینا۔ الضِغن جمع أضغان: گود، بغل۔

۴۔ الضِغن جمع أضغان: جانب، پہاڑ کا پہلو۔

○ ضغن ـ ضغنًا علی: کے خلاف بغض رکھنا، کینہ رکھنا، کے خلاف دل میں نفرت رکھنا، پر برہم ہونا۔ تضاغن: ایک دوسرے کے خلاف بغض و کینہ رکھنا۔ ضِغن جمع أضغان و ضغینة جمع ضغائن: کینہ، بغض، عناد، بدباطنی، کینہ جوئی، بدخواہی، کسی کا برا چاہنا، دلی نفرت۔ ضغِن: بغض پرور، کینہ جو، بدخواہ، کینہ ور، کینہ پرور، برا ماننے والا، برہم۔

ضغا: ۱۔ ضغا ـ ضغوًا المقامر: جواری کا خیانت کرنا۔

۲۔ ضغا ـ ضغوًا إلیه: کی اطاعت اختیار کرنا، فرمانبرداری کرنا، کے آگے ذلیل ہونا۔ ـ ضغوًا و ضُغاءً السنور: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ تضاغی: بھوک یا مار سے اینٹھنا اور چلانا۔ الضُغاء (مص): ذلیل آدمی کی آواز۔

ضف: ۱۔ ضفَّ ـ ضفًّا و ضففًا القومُ علی الماء و الطعام: پانی یا کھانے پر بھیڑ کرنا۔ ـ ضفًّا الشیءَ: چیز کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تضافَّ القوم: بھیڑ کرنا۔ الضفَّة: جماعت۔ عینٌ ضَفوفٌ: بہت پانی والا چشمہ۔ الضفیف: کہتے ہیں: هو من لفیفنا و ضفیفنا: وہ ان لوگوں میں سے ہے، جن کی مصیبت کے وقت ہم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ ماءٌ مَضفوف: وہ پانی جس پر بہت بھیڑ لگے۔

۲۔ تضافَّ القوم: کم مال والا ہونا۔ ضفُّ الحال: بدحال، زبوں حال والا۔ الضفف: مال کی قلت، عیال کی کثرت، حاجت، کمزوری۔ الضفافة: بے عقل۔

۳۔ الضَفَّة و الضِفَّة جمع ضِفاف: دریا کا کنارہ، سمندر کا ساحل۔ الضفف: کام میں جلد بازی۔

۴۔ ضفضفة القوم: لوگوں کی جماعت، گروہ۔

○ ضَفَّة: بھیڑ، ہجوم، انبوہ، ازدحام، (لوگوں کا)۔ ضفف: غربت، افلاس، بے نوائی۔

ضفد: ۱۔ ضفد ـ ضفدًا ہ: کو تھپڑ مارنا۔

۲۔ ضفدع الماءُ: پانی کا مینڈکوں والا ہونا۔ ـ الرجلُ: سکڑنا، گوز کرنا۔ الضِفدع جمع ضفادع و ضفادی: (جو بہت کم مستعمل ہے) واحد ضِفدعة (ح): مینڈک

○ ضِفدعٌ بشریٌ: آبدوز سپاہی (frogman) (فوجی اصطلاح)

ضفر: ۱۔ ضفر ـ ضفرًا و ضفَّر الحبلَ: رسی بٹنا۔ ـ الشعرَ: بال گوندھنا۔ انضفر: گندھا ہوا ہونا، بٹا ہوا ہونا۔ کہتے ہیں: انضفر الحبلان: دو رسیاں آپس میں بٹ گئیں۔ الضفر (مص) جمع ضُفور و أضفار: کجاوہ کا تنگ، گندھے ہوئے بالوں کی ایک لٹ یا زلف، ریت کا ایک بڑا تودہ۔ الضِفار جمع ضُفُر: کجاوہ کا تنگ۔ الضفرة: ریت کا ایک بڑا تودہ یا ڈھیر۔ کنانة ضفرة: بھرا ہوا ترکش۔ الضفیر: گندھے ہوئے بالوں کی رسی، ساحل سمندر، کجاوہ کا تنگ۔ الضفیرة جمع ضفائر: زلف، کہتے ہیں: کنانةٌ ضفیرةٌ: بھرا ہوا ترکش۔

۲۔ ضفر ـ ضفرًا البناءَ: پتھروں سے عمارت کو بغیر چونے اور گارے کے بنانا۔

۳۔ ضفر ـ ضفرًا و ضفر الرجلُ: دوڑنے میں کودنا۔

۴۔ ضفر ـ ضفرًا و ضفر الدابةَ: جانور کے منہ میں لگام ڈالنا۔

۵۔ ضافرہ علی الأمر: کی کام میں مدد کرنا۔ تضافروا علی الأمر: کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا

○ ضفر ـ ضفرًا ہ: (بالوں کو) گوندھنا، (بالوں کی) چوٹی کرنا، چٹیا کرنا۔ ـ ہ: کسی چیز کو گوندھنا، بٹنا، بل دے کر ایک کرنا۔ ـ ہ: (رسی) کو بٹنا۔ ضفّر بمعنی ضفر۔ ضافرہ: کی مدد کرنا، کا ہاتھ بٹانا، کو مدد دینا، کی اعانت کرنا۔ تضافر علی: کچھ کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تضافر: مضبوطی سے بٹا ہوا ہونا، گندھا ہوا ہونا، مربوط ہونا، بندھا ہوا ہونا، جڑا ہوا ہونا (مع: کے ساتھ) (گواہی کا) مربوط ہونا۔ ضفر جمع ضُفور: (زین کا) تنگ۔ ضِفار جمع ضُفُر: (زین کا) تنگ۔ ضفیرة جمع ضفائر: چوٹی (گندھے ہوئے بال) بالوں کی لٹ، زلف، گیسو، کاکل، جھالر، کلابتوں، لچھا، لڑ، گچھا۔

ضفز: ۱۔ ضفز ـ ضفزًا: کودنا، پھاندنا۔ ـ فلانًا: کو دفع کرنا، کو ہاتھ پاؤں سے مارنا۔ ـ الفرسَ: گھوڑے کو لگام دینا۔ ـ البعیرَ: اونٹ کے منہ میں زبردستی لقمہ ڈالنا۔ اضطفزہ: کے منہ میں اس کی کراہت کے باوجود لقمہ ڈالنا۔ الضفز: کچلا ہوا جو جو اونٹ کو بطور چارہ دیا جاتا ہے۔ الضفّاز: چغل خور۔ الضفیزة جمع ضفائز: بڑا لقمہ۔

ضفط: ۱۔ ضفط ـ ضفاطةً بالحبل: کو رسی سے مضبوط باندھنا، جکڑنا۔ الضافط (فا): قریب کا مسافر۔ الضافطة: الضافط کا مؤنث، لادو اونٹ، شتربان، رذیل لوگ۔ الضفّاط و الضفط و الضفیط: شتربان، رذیل شخص۔

۲۔ ضفط ـ ضفطًا الرجلُ: اپنی حاجت پوری کرنا۔ ـ بسلحه: پاخانہ کرنا۔

۳۔ ضفط ـ ضفاطةً: ڈھیلے اور بڑے پیٹ والا ہونا۔ ضافط اللحمُ: گوشت کا گٹھا ہوا ہونا۔ الضفّاط

والضَفِط و الضَفِيط: بڑے پیٹ والا، ڈھیلا ڈھالا موٹا۔ الضَفَنَّط: ڈھیلا ڈھالا موٹا، بڑے پیٹ والا۔

۴۔ ضَفَطَ ۔ضَفَاطَةً: جاہل اور کمزور رائے والا ہونا۔ الضَفُطَه: جہالت۔ رائے کی کمزوری الضَفَّاط و الضِفِطّ و الضَفِيط: بے وقوف۔

۵۔ الضافِطَة: رذیل لوگ۔ الضَفّاط و الضِفِطّ والضَفِيط: بوجھل شخص۔ الضُفّاط: رذیل لوگ۔

ضفن: ۱۔ ضَفَنَ ۔ضَفْنًا إليه: کسی کے پاس جا کر بیٹھنا۔ ــ بحاجته: اپنی ضرورت پوری کرنا۔ ــ مع الضعيف: کمزور کے ساتھ آنا۔

۲۔ ضَفَنَ ۔ضَفْنًا برجله: لات مارنا۔ ــ به الارضَ: کو زمین پر گرانا۔ ــ فلانًا: کسی کے سرین پر لات مارنا۔

۳۔ ضَفَنَ ۔ضَفْنًا عليه: پر ظلم کرنا۔

۴۔ الضِفَنّ و الضِفَنَّ: بے وقوف، چھوٹے قد والا موٹا۔

ضفا: ضَفَا ۔ضَفْوًا الرأسُ: سر کا بہت بالوں والا ہونا۔ ــ الحوضُ: حوض کا کناروں پر سے بہنا۔ ــ الثوبُ: کپڑے کا لمبا چوڑا ہونا۔ صفت: ضافٍ۔ الضفا تثنيه ضفوان: پہلو، جانب۔ ضَفْوَةُ العيش: مرفح الحالی۔ سرفہ حالی۔

○ ضَفَا ۔ضَفْوًا: وافر، کثیر، فراوان یا بہت ہونا کی افراط، کثرت یا بہتات ہونا، کناروں پر سے بہنا۔ أضْفَى ہ على: کو وافر مقدار میں کوئی چیز دینا یا کیلئے مختص کرنا، کو کوئی چیز دینا، کو کوئی چیز انعام دینا۔ ــ علـى كو ہ: کوئی چیز رکھنے دینا، کو کسی چیز کا مالک ہونے دینا، کو سے پُر کرنا۔ ــ على ہ: کو میں لپیٹنا، کو سے ڈھانپنا، کو پر پھیلانا۔ ضَفْوَةُ العيش: مطمئن اور آرام دہ زندگی۔ ضافٍ: کثیر، وافر، فراوان، بہت، بافراط، لبریز، فراخ، کشادہ، مفصل، دور تک پھیلا ہوا، بہت، بڑا، پورا، جامع، مکمل۔

ضق: ضَقَّ ۔ضَقًا: آواز نکالنا۔

ضك: ضَكَّ ۔ضَكًّا ہُ: کو دبانا۔ ــ الامرُ فلانًا: معاملہ کا کسی پر تنگ ہونا۔ ــ ہُ بالحُجَّة: کو دلیل سے مغلوب کرنا۔

ضكز: ضَكَزَ ۔ضَكْزًا ہُ: کو سختی سے چھونا۔

ضكل: الضَكُل: تھوڑا پانی۔ الضَيْكل جمع ضَيَاكِل و ضَيَاكِلَة: بڑے تن و توش کا آدمی، ننگا، برہنہ، فقیر۔ الأضْكَل: ننگا۔

ضل: ۱۔ ضَلَّ ۔ضَلالًا و ضَلالَةً: کج راہ ہونا، دین سے پھرنا، حق یا راستہ سے ہٹنا، بھٹکنا۔ صفت: ضالّ جمع ضُلّال و ضالّون۔ ــ الطريقَ اَوْ عنهُ: راستہ سے بھٹکنا۔ ــ الشيءُ عنه: سے چیز کا ضائع ہونا اور جاتا رہنا۔ ــ سعيُهُ: کوشش میں ناکام ہونا۔ ــ الرجُلَ: کو بھول جانا۔ ضَلَّل تضليلًا و تَضْلالًا ہُ: کو گمراہ کرنا، کو گمراہ کہنا۔ اَضَلَّ الشيءَ: کو ضائع کرنا۔ ــ ہُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو گمراہ کرنا۔ ــ فلانٌ فرسَهُ: کے گھوڑے کا بھاگ جانا اور اسے پتہ نہ لگنا کہ کہاں گیا۔ ــ الشيءَ و الرجُلَ: کو گمراہ پانا۔ اسی سے ہے: اتى قومَهُ فاضلهم۔ یعنی وہ اپنی قوم کے پاس آیا تو انہیں گمراہ پایا۔ تَضالّ: گمراہی کا دعوی کرنا۔ اِسْتَضَلّ: گمراہ ہونے کو کہنا۔ الضَلّ و الضُلّ و الضَلال و الضلالَة: گمراہی، باطل۔ کہتے ہیں: هو ضُلُّ بنُ ضُلٍّ او ضِلّ بنُ ضِلّ او ضُلُّ أضْلالٍ او ضَلُّ اَضْلالٌ: وہ گمراہی میں منہمک ہے یا اس کے باپ کا پتہ نہیں کہ کون ہے یا اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ الضَلَل: گمراہی، پتھروں کے نیچے یا درختوں کے مابین بہنے والا پانی جس کو دھوپ نہ پہنچتی ہو۔ الضَلّة: رہنمائی میں مہارت کہتے ہیں: دليل به ضُلَّة: وہ رہنمائی میں ماہر ہے۔ الضله: ضل کا اسم مرہ، حیرت، نیکی یا برائی کی طلب میں سخت حیرت یا مدہوشی۔ الضِلّة: گمراہی کہتے ہیں: ذهب دمه ضِلَّةً: اس کا خون رائیگاں گیا۔ ذهب ضِلَّةً: معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ هو تِبْعُ ضِلّة: وہ فریبی ہے، اس میں خیر و بھلائی کی کوئی چیز نہیں۔ هو يلومني ضِلّةً: وہ مجھے ملامت کرنے میں راہ راست پر نہیں۔ الضالّة جمع ضَوالّ: الضال کا مؤنث، وہ کھوئی ہوئی چیز جس کی تلاش کی جائے۔ الضَلُول: گمراہ۔ الضِلّيل: بہت زیادہ گمراہ۔ المَلِكُ الضِلّيل: زمانہ جاہلیت کے شاعر امرئ القیس کا لقب۔ الأضْلولة جمع اَضالِيل: غلطی، گمراہی۔ المَضَلّ: جس میں لوگ گمراہ ہوں۔ المُضِلّ (فا): سراب۔ المَضَلّة و المَضِلّة: گمراہی۔ ارضٌ مَضَلّة و مَضِلّة: وہ زمین جس میں راستہ بھول جائیں جمع میں ارضونٌ مَضَلّات کہتے ہیں: المُضَلَّل: بہت گمراہ، گمراہی کا بہت پیچھا کرنے والا، جس کو نیکی کی توفیق نہ ہو۔

۲۔ ضَلَّ ۔ضَلالًا و ضَلالَةً الشيءُ: چیز کا تلف ہونا۔ ــ الرجلُ: آدمی کا مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جانا۔ أضَلّ الشيءَ: کو ہلاک کرنا، دفن کرنا، غائب کرنا۔ الضَلّ و الضُلّ و الضلال و الضَلالَة: ہلاکت۔

○ ضَلَّ ۔ضَلالًا و ضَلالَةً: راستہ بھول جانا۔ ــ ہ/ عن: راستہ سے بھٹک جانا، بھٹکتے پھرنا۔ ــ غلطی کرنا۔ ضَلّ سعيُه: کی کوشش کا بیکار، فضول یا لاحاصل ہونا۔ ضَلَّل ہ: کو غلط راہ پر لگانا، غلط خیال دلانا، سے غلطی کرانا، کو گمراہ کرنا، راہ سے بھٹکانا، کو بہکانا، سبز باغ دکھانا، دھوکا دینا، دغا دینا، فریب یا جُل دینا۔ ضَلَّل نفسه: اپنے آپ کو بہکانا، سبز باغ دکھانا۔ أضَلَّ بمعنی ضَلَّل نیز اضَلّ ہہ: کو راستہ سے بھٹکانا۔ ــ ہ: کو ضائع ہونے دینا۔ ضُلّ: غلطی، خطا۔ ضَلال: راستہ سے بھٹکنا، حق سے بھٹکتے پھرنا، غلطی۔ ضَلالُ الألوان: رنگوں میں امتیاز سے عاری، رنگوں کا اندھاپن۔ ضَلالَه: غلطی، گمراہی۔ اُضْلُوله جمع اضالیل: غلط عقیدہ، گمراہی، ضلالت، غلط طرز عمل۔ مَضَلَّه: گمراہ ہونے کا موقع یا امکان۔ تضليل: غلط راہ پر لگانا، ڈالنا یا گمراہ کرنا، مغالطہ وسوسہ، توہم، دھوکا، فریب، دغابازی۔ ضالّ: راستے سے بھٹکنے والا، مارے مارے پھرنے والا، گم کردہ راہ، گمراہ، بھٹکا ہوا، گم گشتہ کھویا ہوا، برباد شدہ، غلط، غیر صحیح، نادرست، جھوٹا۔ ضالّة و ضالّة منشودة: مستقل جستجو کا مقصود، طویل عرصہ سے عزیز خواہش کا مقصد۔ مُضَلِّل: گمراہ کن، فریب دہ، پُر فریب مغالطہ آمیز۔ مُضِلّ: گمراہ کن، مغالطہ میں ڈالنے والا، دھوکے میں ڈالنے والا۔

ضلع: ۱۔ ضَلَعَ ۔ضَلْعًا الرجُلَ: کی پسلی پر مارنا۔ ضَلُعَ ۔ضَلاعَةً: قوی اور مضبوط پسلیوں والا ہونا، صفت: ضَلِيع، ضَلِعَ ۔ضَلَعًا و ضَلْعًا الرجُل: شکم سیر یا سیراب ہونا۔ ضَلَّعَ الثوبَ: کپڑے پر پسلی کی شکل کی صورتیں بنانا۔ ــ ہُ: کو بوجھل کرنا۔ اضلع ہُ: پر بوجھ ڈالنا۔ کہتے ہیں: فلانٌ أضْلَعَتْهُ الخُطوبُ: حوادث نے اس پر بوجھ ڈال دیا۔ تَضَلَّعَ: خوب شکم سیر یا سیراب ہونا۔ اس سے ہے: تَضَلَّعَ من العلوم: علوم سے وافر حصہ پانا۔ اِضْطَلَعَ: قوی اور مضبوط ہونا۔ ــ بحمله: بوجھ لے کر کھڑا ہونا اور اس کی قوت رکھنا۔ الضِلْع جمع أضْلُع و ضُلوع و اضلاع (ع ا): پسلی (مونث ہے) مثلث یا مکون کا ایک ضلع۔ الضِلْع من البطيخ: خربوزے کی قاش۔ ضِلع السِلق و نحوه: چقندر وغیرہ کے پتہ کی موٹی رگ۔ الضِلَع جمع أضْلُع و ضُلوع و اضلاع: پسلی، ابرو۔ ــ من البطيخ: خربوزہ کی قاش۔ کہتے ہیں: هم عليَّ ضِلَعٌ جائرة: وہ دشمنی میں میرے خلاف متحد ہیں۔ الضَلَع: طاقت۔ الضِلَعَة بغل کی شکل، پہلو۔ الضِلَعة (ح): ایک قسم کی سبز رنگ اور چھوٹی ہڈی کی مچھلی۔ الأضْلَع جمع ضُلْع: مضبوط موٹا آدمی۔ الضَلِيع جمع ضُلُع م ضَلِيعَة: مضبوط،

مضبوط پسلیوں والا۔ رجُلٌ ضَلِيعُ الفم: بڑے منہ والا آدمی۔ المُضْلع من الاحمال: بوجھل عاجز کرنے والا بوجھ۔ کہتے ہیں: هو مُضْلِعٌ بهذا الامر: وہ یہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ المُضَلَّع (مفع): پہلوؤں والا، متعدد الاضلاع۔ ــ من الشياب: دھاری دار کپڑا، پہلوؤں والا۔

۲۔ ضَلَعَ ـضَلْعًا الشيءُ: ٹیڑھا ہو جانا۔ صفت: ضَالِع۔ ــ عليه: پر ظلم کرنا۔ ضَلِعَ ـضَلَعًا وضَلْعًا: پیدائشی ٹیڑھا ہونا۔ صفت: ضَلِع: اس سے ہے: لأقيمن ضَلَعَك او ضَلْعَك: میں تیرا ٹیڑھا پن سیدھا کر دوں گا۔ ــ مع فلان: کے ساتھ جھکنا۔ ضَلَّعَ هُ: کو جھکانا، ٹیڑھا کرنا۔ أَضْلَعَ هُ: کو جھکانا۔ الضَّلْع (مص): جھکاؤ، ٹیڑھا پن۔ کہتے ہیں: ضَلْعُك مع فلان: تمہارا جھکاؤ اور پیار، محبت فلاں کے ساتھ ہے۔ الضَّلَع (مص): پیدائشی ٹیڑھا پن۔ الضَّلُوع: زمین کا ڈھلواں۔ قوسٌ ضَلِيع وضَلِيعَةٌ و مَضْلُوعَةٌ: کمان جس کی لکڑی میں جھکاؤ ہو۔

۳۔ الضَّلَع: قوت اخلاق کی وسعت۔ الضِّلَع: اکیلا پتلا پہاڑ۔ جال، پھندا۔

○ ضَلَعَ ـضَلْعًا مع: کی حمایت کرنا، کسی غرض کیلئے کسی کے ساتھ متحد ہونا۔ ضَلُعَ ـضَلَاعَة: مضبوط و قوی ہونا، موٹا تازہ، ہٹا کٹا یا قوی ہیکل ہونا۔ ضَلِعَ ـضَلَعًا: ٹیڑھا ہونا، خمیدہ ہونا، مڑنا۔ ضَلَّعَ هُ: کو ٹیڑھا کرنا، موڑنا، جھکانا۔ تَضَلَّعَ من: سے لبالب، یا کھچا کھچ بھرا ہونا، پر ہجوم ہونا، میں ماہر ہونا۔ اضطلع ب: میں ماہر ہونا، کا ذمہ لینا، کو اپنے سر لینا۔ إستضلع من: میں ماہر ہونا، سے خوب واقف ہونا۔ ضَلْع: تعلق، محبت شفقت لگن، چاہ، لگاؤ، وابستگی۔ ضَلْعُهُ معه: اس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، وہ اس کا طرف دار اور حمایتی ہے۔ ضِلْع و ضِلَع جمع ضُلُوع و أَضْلاع و أَضْلُع: پسلی، چاپ، قتلہ، قاش، ٹکڑا، پہلو طرف ضلع (کسی مثلث یا تکون کا)۔ الأَضْلاع: سینہ۔ ضلع البرميل: پیپے کی پٹی، چپٹی۔ متساوی الاضلاع: مساوی الاضلاع equilateral۔ کان له ضلع في الامر: اس کا اس معاملہ میں ہاتھ تھا، اس نے اس معاملہ میں ایک کردار ادا کیا۔ ضَلِيع: مضبوط، قوی ہیکل، واقف حال، ماہر تجربہ کار۔ ضَلَاعَة: طاقت، موٹا تازہ یا قوی ہیکل ہونا، جسم کا قوی ہونا۔ مُضَلَّع: پسلی دار، کثیر الاضلاع جمع مُضَلَّعَات کثیر الاضلاع شے۔ صاج مُضَلَّع: سلوٹ یا نال دار لوہا corrugated iron۔ مُتَضَلِّع من: میں ماہر، سے واقف۔

ضمّ: ۱۔ ضَمَّ ـضَمًّا الشيءَ: کو جمع کرنا۔ ــ الشيءَ إليه: کو اپنی طرف کھینچنا۔ ــ الشيء: پر قبضہ کرنا۔ آپ کہتے ہیں: ضَمَّ علی یدی: اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ضم فلانا اليه: کو اپنے ساتھ رکھنا۔ ــ الحرفَ: حرف کو ضمہ کی حرکت دینا (حرف پر پیش لگانا)۔ ــ هُ إلى صدره: سے معانقہ کرنا، کو گلے لگانا۔ کہتے ہیں: ضَمَّ جناحه عن الناس: وہ لوگوں پر مہربان ہوا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا۔ ضَامَّهُ اليه: کو اپنے ساتھ ملانا۔ أَضَمَّهُ الشيءَ إلى فلان: چیز کو کسی کے ساتھ فلاں کے پاس بھیجنا۔ تَضَمَّمَ الشيءَ: کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کرنا۔ تَضَامَّ القومُ: لوگوں کا باہم جمع ہونا، متحد ہونا۔ إضْطَمَّهُ: کو اپنی طرف کھینچنا۔ ــ عليه: کو شامل کرنا، پر مشتمل ہونا۔ إنضَمَّ: جڑنا، ملنا۔ ــ علی کذا: پر مشتمل ہونا۔ الضَّمُّ (مص) عند النحاة: نحویوں کے نزدیک: پیش (ـُ)۔ الضَّمَّة: گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی جماعت۔ پیش (ـُ)۔ الضِّمَام: ملانے کا ذریعہ۔ الضَّمُوم: دو لمبی پہاڑیوں کے درمیان کی وادی۔ الضَّمِيم م ضَمِيمَة: ساتھی۔ الإِضْمَامَة جمع أَضَامِيم: جماعت، گروہ۔ ــ من الكتب: تحریرات کا پلندہ۔ المُنْضَمّ علی کذا: پر مشتمل۔ کہتے ہیں: أَصْبَحَ مُنْضَمًّا: وہ دبلا پتلا ہو گیا۔

۲۔ ضَمْضَمَ ضَمْضَمَةً فلانٌ علی المال: سب مال لے لینا۔

۳۔ ضَمْضَمَ ضَمْضَمَةً الرجلُ: کا دل کو قوی اور بہادر بنانا۔ ــ الأَسَدُ: شیر کا دھاڑنا۔ الضمضم والضُّمَاضِم (ح): شیر، جرأت والا، جسیم، غصہ والا۔

○ ضَمَّ ـضَمًّا هُ: کو قریب لانا، ملانا، جوڑنا، کھینچ کر قریب کرنا، سمیٹنا، سکیڑنا؛ کو جمع کرنا، کا میزان لگانا؛ اکٹھا کرنا، فصل کاٹنا۔ ــ هُم: لوگوں کو متحد کرنا۔ ــ هُ: سے گلے ملنا، معانقہ کرنا۔ ــ هُ الی: کو سے ملانا، جوڑنا، کو کے آخر میں لگا دینا، جوڑ دینا، کو میں شامل کرنا۔ ــ هُ/ هُ إلى: کو میں جمع کرنا، کو سے جوڑنا، کو سے متحد کرنا۔ ــ هُ: (ہونٹ) بند کرنا، بھینچنا۔ ــ علی: کسی شخص یا چیز کو زور سے پکڑنا، ہاتھوں سے پکڑنا، ہتھیانا، پکڑنا۔ ضَمَّ هُ: (قسمت کا) کسی کو ناگوار صورت حال میں پھنسا دینا۔ ضَمَّ الصفوف: صفیں متحد کرنا۔ ضَمَّهُ إلى صدره: کو گلے ملنا، گلے لگانا، آغوش میں لینا، سے ہم آغوش ہونا۔ ضَامَّ: متحد ہونا، جمع ہونا۔ إنْضَمَّ: قریب آنا، مل جانا، ہجوم ہونا، بندھا ہونا۔ ــ إلى: سے متحد ہونا، میں جمع ہونا، شامل ہونا، سے شرکت کرنا، کیساتھ شریک ہونا، کا ہم صحبت ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سے ملحق ہونا، کا سے الحاق ہونا۔ إلى: (کسی تنظیم وغیرہ) میں شامل ہو جانا۔ ــ علی: پر مشتمل ہونا۔ ضميمة: اضافہ، ضمیمہ، تکملہ، (تنخواہ میں) اضافہ۔ تضامًا مع: مع، بمعیت، اور، بھی، (together with)۔ مَضْمُوم: بند، بھنچا ہوا، سکڑا ہوا۔ مُنْضَمَّة: لازمی (جمع لوازم) متعلقہ چیز (جمع متعلقات)۔

ضمج: ضَمَجَ ـضَمْجًا جسدَهُ: جسم پر خوشبو لگانا۔ ــ بالارض: زمین سے پیوست ہونا۔ ضَمَّجَ جَسَدَهُ: جسم پر خوشبو لگانا۔ أَضْمَجَ بالارض: زمین سے پیوست ہونا۔ الضَّمَج: آفت۔ الضَّمْجَة جمع ضُمُج (ح): کھٹمل۔

ضمح: إضْمَحَلَّ: گھٹنا، نیست ہونا۔ ــ السحابُ: بادل کا اڑ جانا، کھل جانا۔

○ إضْمَحَلَّ: نظروں سے اوجھل ہو جانا، غائب ہو جانا، کافور ہو جانا، دفعۃً غائب ہو جانا، ہوا میں تحلیل ہو جانا، معدوم ہونا، سمٹنا، آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہو جانا، کم ہو جانا، گھٹ جانا۔

ضمخ: ضَمَخَ ـضَمْخًا و ضَمَّخَ جسدَه بالطيب: بدن پر خوشبو لگانا، تھوپنا۔ تَضَمَّخَ و اضْطَمَخَ وانضمخ بالطيب: خوشبو سے لتھڑنا، لت پت ہونا۔ الضِّمْخَة: عورت۔ (ح): موٹی اونٹنی۔

○ ضَمَخَ ـضَمْخًا و ضَمَّخَ ہ/ ہ ب: کو کا تیل لگانا، کو کا تیل ملنا، کو کی خوشبو لگانا۔

ضمد: ۱۔ ضَمَدَ ـضَمْدًا و ضَمَّدَ الجرحَ: زخم پر پٹی باندھنا۔ کہتے ہیں: اضْمُدْ عليك ثيابك: یعنی اپنے آپ پر کپڑے باندھ لے۔ ضَمَدَهُ بالعصا: اس نے اس کے سر پر لاٹھی ماری۔ اسی طرح: ضمد رأسه بالسيف: کے سر پر تلوار ماری۔ أَضْمَدَ القومَ: لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ تَضَمَّدَ الجرحُ: زخم پر پٹی کا بندھ جانا۔ الضِّمْد: ساتھی، دوست۔ الضِّمَاد و الضِّمَادَة: پٹی جس کو زخم پر باندھا جاتا ہے۔ سر کا فیتہ یا پٹی۔ کہتے ہیں: انا علی ضِمَادةٍ من الامر: میں معاملہ کے قریب پہنچ گیا ہوں۔

۲۔ ضَمِدَ ـضَمَدًا: خشک ہونا۔ الضَّمْد: خشک، تر (ضد)۔

۳۔ ضَمِدَ ـضَمَدًا: سخت غضبناک ہونا۔ ــ علیه: سے کینہ رکھنا، نفرت کرنا۔

۴۔الضَّمَد اچھی بکریاں، خراب بکریاں (ضد) کینہ وری۔الضَّمَد ظلم، بقیہ حق۔ کہتے ہیں لنا علی فلان ضَمَدٌ: فلاں کے اوپر قرض وغیرہ کا ہمارا حق باقی ہے۔الضامد لازمی، ضروری۔

ض م د ضِمَاد زخم پر پٹی باندھنا، پٹی، فیتہ، عورت کا کئی معاشقے جاری رکھنا۔ضِمَادۃ زخم پر پٹی باندھنا، پٹی۔مُضَمِّد مرد نرس۔مُضَمِّدَۃ نرس، گدی، پٹی، ٹھنڈے پانی کی پٹی۔

ض م ر ا۔ضَمَرَ و ضَمُرَ ضُمُوراً لاغر، نحیف اور کم گوشت والا ہونا۔صفت ضامِر مؤنث ضامر و ضامرۃ جمع ضُمَّر و ضَوَامِر۔ ضَمَّرَ و أضْمَرَ الفرس گھوڑے کو دبلا کرنا۔تَضَمَّرَ وجهُهُ لاغری سے چہرہ کا سکڑنا۔اِنْضَمَرَ الغصنُ شاخ کا خشک ہونا۔اِضْطَمَر مل جانا۔الفرسُ گھوڑے کا دبلا ہوجانا۔الضُمْر و ضُمْرۃ لاغر دو بلے پیٹ والا، نازک بدن، تنگ۔الضُمْر و الضُمُر لاغری، دبلا پن۔الضَمِیر جمع ضَمَائِر مرجھایا ہوا انگور۔المِضْمَار گھوڑے چھریرے کرنے کی جگہ یا مدت، گھڑ دوڑ میں وہ جگہ جہاں تک دوڑا جاتا ہے۔گھوڑ دوڑ اور سدھانے کا میدان۔

۲۔أضْمَرَ الأمر بات کو چھپانا۔۔۔ فی نفسہ شیئاً اپنے دل میں کسی چیز کا عزم کرنا۔الخبرَ خبر کی تہہ تک پہنچنا۔۔۔ت الارضُ فلاناً: زمین کا کسی کو سفر یا موت کی وجہ سے غائب کر دینا۔الشاعرُ شاعر کا اضمار برتنا۔الضمر ضمیر۔والمُضْمَر پوشیدہ۔الضِمَار پوشیدہ، ٹالا ہوا وعدہ (جیسے عطاء لم یکن عدۃ ضِمَاراً: عطیہ ٹالا ہوا وعدہ نہ تھا)، تنگی، مال جس کی واپسی کی امید نہ ہو۔۔ من الدین قرض جس کی مدت مقرر نہ ہو الضمیر جمع ضَمَائِر انسان کا باطن۔۔ عند النحاۃ نحویوں کے نزدیک وہ کلمہ جو متکلم، مخاطب اور غائب پر دلالت کرے۔ جیسے انا، انت ھو۔الإضمار (مص) عند العروضیین علم عروض میں دوسرے حرف کے اسکان کو کہتے ہیں۔ جیسے مُتَفَاعِلُنْ کی "ت" جو مُسْتَفْعِلن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

ض م ر ضَمَرَ و ضَمُرَ ضَمْراً و ضموراً کمزور، پتلا، دبلا، لاغر یا سکڑا ہوا ہونا۔ضَمَّرَ ہ کو کمزور بنانا، پتلا کرنا، پتلا اور لمبا کرنا۔أضْمَرَ ہ بمعنی ضَمَّرَ ہ۔ نیز اضمر فی نفسہ ہ: کو اپنے دل میں چھپا رکھنا، چھپانا، مخفی رکھنا، خفیہ رکھنا، صیغہ راز میں رکھنا۔۔ فی نفسہ کو اپنے تک رکھنا۔۔ ہ ل کسی جذبہ یا احساس وغیرہ کو کسی کی طرف اپنے دل میں یا ذہن میں رکھنا۔أضْمَرَ له الشر: کے خلاف کینہ، بغض رکھنا، کے خلاف دل یا ذہن میں نفرت رکھنا۔تَضَمَّرَ پتلا، دبلا، لاغر، کمزور ہوجانا۔اِنْضَمَرَ بالکل سوکھ جانا، مرجھاجانا، پژمردہ ہونا، جھر مرجھاجانا۔دین ضِمَار قرضہ جس کی واپسی ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ضَمِیر دل، ذہن، نفس، شعور، ضمیر، ضمیر (گرامر)۔تانیب الضمیر پشیمانی، ندامت، توبہ، پچھتاوا۔حَیُّ الضمیر فرض شناس، ایماندار، بااصول، بڑا محتاط، متدین، بہت بچنے والا۔مُرتاحُ الضمیر امن پسند ذہن والا۔فاقِد الضمیر بے ایمان، بددیانت۔مِضْمَار جمع مَضَامِیر گھوڑ دوڑ کا میدان (race course)، گھوڑوں کے دوڑنے کا راستہ، اکھاڑہ، دنگل، میدان عمل، میدان۔مُضْمَر خفیہ، چھپا ہوا، مخفی، پوشیدہ، ضمیر (گرامر)۔اسمٌ مُضْمَر ضمیر (گرامر)۔

ض م ز ضَمَزَ ضَمْزاً چپ رہنا، منہ بند رکھنا۔۔ اللُقمۃ بڑا لقمہ بنا کر نگلنا۔۔ علی مالہ اپنے مال پر بخل کرنا، صفت ضَامِز و ضَمُوز۔الضَمْر و الضَمُور جمع ضُمُور تنہا پہاڑ، پست ٹیلہ۔

ض م س ضَمَسَ ضَمْساً ہ کو آہستہ آہستہ چبانا، کو چوری چھپے چبانا۔

ض م ن ا۔ضَمِنَ ضَمْناً و ضَمَاناً الشیَ و بہ کا ضامن ہونا۔ضَمَّنَہُ الشیءَ کو کا ذمہ دار بنانا۔تَضَمَّنَ الشیءَ عَنِّی: اس نے میری طرف سے چیز کا ذمہ لیا۔تَضَامَنَ الغرماءُ قرضداروں کا قرض خواہ کے سامنے باہم ذمہ داری لینا کہ وہ ان میں سے جس سے چاہے اپنی پوری رقم وصول کرنے کا حق دار ہے۔کا مشترک ذمہ دار ہونا اور کیلئے قانوناً جوابدہ ہونا۔۔ القومُ علی امر لوگوں کا کسی بات پر متحد و متفق ہونا۔الضَّامِن کفیل، ذمہ دار۔الضَمَان (مص) تاوان، ڈنڈ، کفالت۔۔ الاجتماعی مشترکہ ضمانت، کفالت۔شرکاتُ الضَمَان: بیمہ کمپنیاں۔الضمانۃ الدولیۃ: بین الاقوامی ضمانت۔الضمین جمع ضُمَنَی ضامن، کفیل۔

۲۔ضَمِنَ ضَمْناً و ضَمَانَۃً: کو جمع کرنا۔ضَمَّنَ الشی الوعاءَ چیز کو برتن میں رکھنا۔۔ الشاعِر شاعر کا تضمین کرنا یعنی دوسرے کے شعر اپنے کلام میں شامل کرنا۔تَضَمَّنَ الشیءَ پر مشتمل ہونا۔الضِمْن چیز کا اندر۔ضِمْنُ الکتاب کتاب کا پلیٹ۔التضمین (مص) شاعر کا دوسرے شاعر کے شعر کا کچھ حصہ اس کے لفظوں اور معنی میں لے کر اپنے کلام میں شامل کرنا۔المَضْمُون (مفع) من الجملۃ جمع مضامین جملہ کا مضمون یا مافیہ۔المُضَمَّن (مفع) من الاصوات غیر مکمل آواز۔

۳۔ضَمِنَ ضَمْناً و ضَمَانَۃً الرجلُ: پرانی بیماری والا ہونا۔صفت ضَمِن۔الضَمَن والضُمْنَۃ و الضَمَان والضَمَانَۃ: پرانا مرض، زمانہ۔الضَمِن پرانی بیماری میں مبتلا۔(کہتے ہیں ھو ضَمِنٌ علی اھلِہ یعنی وہ اپنے گھر والوں پر بوجھ ہے۔) عاشق۔الضمین جمع ضَمْنَی مرض کہن میں مبتلا۔

ض م ن ضَمِنَ ضَمَاناً ہ ب کیلئے ذمہ دار یا جوابدہ ہونا، کیلئے ضمانت ہونا، کیلئے ضمانت دینا، کا ذمہ دار ہونا۔۔ ل ہ: کو کی ضمانت دینا۔۔ ہ من کے خلاف کا بیمہ کرنا۔ضمن لنفسہ شیئاً کسی چیز کے متعلق واقعی پُریقین ہونا۔ضَمَّنَ ہ من کا بیمہ کرانا۔۔ ہ ہ کسی چیز کو کسی چیز میں ڈالنا، داخل کرنا، شامل کرنا، ملفوف کرنا، لف کرنا۔تَضَمَّنَ ہ پر مشتمل ہونا، محیط ہونا، کا نتیجہ ہونا، کا مفہوم ہونا، کو شامل ہونا۔تَضَامَن ہ کا مشترکہ طور پر ذمہ دار یا جوابدہ ہونا، کی مشترکہ ذمہ داری لینا۔ضِمْن اندر۔ضِمْن میں، کے اندر، کے اندر اندر، کے درمیان میں۔ضِمْناً پوری طرح سے، خاموشی سے۔مفہوم ضمناً مُضْمَر۔من ضِمْن پر مشتمل، کا، کے تحت۔من ضِمنِهِم کے درمیان۔مُبَاشَرَۃً و ضِمْناً: بلاواسطہ اور بالواسطہ۔ضِمنی شامل، مخفی، مضمر، بن کہے، خاموش۔ضَمَان ذمہ داری، ضمانت، کفالت، اجازت نامہ، یقین دہانی، زندگی کا بیمہ، حفاظت، بیمہ۔الضمان الجماعی مشترکہ دفاع یا ضمانت (collective security)۔الضَمَان المُشْتَرَک: مشترکہ ضمانت/ دفاع۔محدود الضمان: محدود ذمہ داری کا لمیٹڈ۔شرکۃ الضمان: بیمہ کمپنی۔ضَمِین جمع ضُمَنَاء ب: کا ذمہ دار، کیلئے جواب دہ، ضامن، گارنٹی دینے والا؛ ضمانت، دینے والا، زمین کے ساتھ بک جانے والا غلام، کاشتکار۔ضَمَانَۃ ضمانت۔أضْمَن بہتر ضمانت دینے والا۔تَضَامُن: باہمی ذمہ داری، جوابدہی، اتحاد۔شرکۃ التضامن: باہمی ذمہ داری کی تجارتی کمپنی۔ضَامِن: ذمہ دار، جوابدہ، ضامن، کفیل۔مضمون گارنٹی شدہ، بیمہ شدہ، ضمانت دیا گیا، بیمہ شدہ چیز جمع مضامین کسی مراسلہ وغیرہ کا مضمون، مافیہ، مفہوم، منشا، معنی۔مضمون الوصول رجسٹری شدہ (خط وغیرہ)۔

متضامن: باہمی، مشترکہ، مشترک باہم دگر، اتحاد میں شامل۔

ضنّ: ضَنَّ ـضَنًّا و ضِنًّا و ضَنَّةً و ضَنَانَةً و ضَنَّةً و اضطَنَّ بالشئ: میں بخل کرنا۔ ـ بالمكان: جگہ نہ چھوڑنا۔ الضِّن و الضِّنَّة (مص)۔ وہ چیز جس میں بخل کیا جائے، خاص۔ کہتے ہیں: هو ضِنِّي و ضِنَّتي: وہ میری خاص چیز ہے۔ الضَّنِن: بہادر۔ الضَّنين: بخیل، کنجوس۔ کہتے ہیں: انما يُضَنّ بالضنين: اس مثل کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص تمہاری دوستی پر جمار ہے اس کی دوستی کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ الضَّنائِن: وہ چیزیں جس کی نفاست کی وجہ سے ان میں بخل کیا جائے۔ ضَنائِنُ الله: خداتعالیٰ کی مخلوق میں خاص لوگ۔ الضَّنانَة (مص)۔ کہتے ہیں: هجمتُ على القوم و هم بضنانتهم: میں نے لوگوں پر حملہ کیا، وہ متفرق نہیں ہوئے۔ بلکہ اکٹھے رہے۔ المَضَنَّة و المِضَنَّة جمع مَضَانّ: وہ چیز جس پر بخل کیا جائے۔

○ ضَنّ ـضَنًّا ب: کو چھپانا۔ ـ على ب. سے کسی چیز میں کنجوسی کرنا، سے کسی چیز کو روکنا۔ ـ على ب. کسی شخص سے دریغ کرنا۔ ما ضَنّ بمشقة على: کی خاطر کسی کوشش سے نہ کترانا۔ ضَنّ ب: میں کفایت شعاری کرنے کیلئے، مناسب غور کے پیش نظر۔ ضنين: کنجوس، لالچی، حریص، طامع، کفایت شعار، کم خرچ، بہت کم، ناکافی۔

ضنأ ا۔ ضَنَأَ ـضَنْأً و ضُنُوءًا: چھپنا۔ ـ في الأرض: زمین میں چلا جانا۔ اِضْطَنَأَ لهُ و منهُ: سے شرمانا۔
۲۔ ضَنَأَ ـضَنْأً و ضُنُوءًا المالُ: مال زیادہ ہونا۔ ـ و ضَنِئَ ـضَنْأً و أَضْنَأَت المرأةُ: عورت کا بہت اولاد والی ہونا۔ صفت: ضَانِئ و ضَانِئَة جمع ضَوَانِئ۔ الضِّنْءُ جمع ضُنُوء: کثرت نسل۔ ـ و الضِّنْءُ: اولاد (اس کا واحد نہیں آتا)۔
۳۔ الضِّنْءُ جمع ضُنُوء: اصل، کان (معدن)۔ الضَّنَاةُ و الضَّنَاءَة: ضرورت۔
○ ضِنْو: بچے۔

ضنب: ضَنَبَ ـضَنْبًا به الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔ ـ بالشيء: پر قبضہ کرنا، کو گرفت میں لینا۔

ضنط: ضَنِطَ ـضَنَطًا الشحمُ: چربی کا موٹا اور ٹھوس ہونا۔ اِنْضَنَطَ القومُ: لوگوں کا بھیڑ کرنا۔ الضَّنْط: تنگی۔ الضَّنَط (مص): چربی، نشاط، شیخی۔ الضِّناط: کنویں وغیرہ پر بہت بھیڑ۔

ضنك ا۔ ضَنُكَ ـضَنَاكَةً: کمزور رائے، جسم یا عقل والا ہونا۔ صفت: ضنيك جمع ضُنُك ـ ضَنَاكَةً و ضَنْكًا و ضُنُوكًا: تنگ ہونا۔ الضَّنك (مص): ہر تنگ شے (مذکر و مؤنث)۔ کہتے ہیں: مكانٌ ضَنْكٌ: تنگ جگہ۔ عيشةٌ ضَنْكٌ: تنگ زندگی، مشکلات میں مبتلا حالات۔ الضَّناكَة (مص): تنگ زندگی۔ الضَّنِيك: تنگ زندگی، تنگ گزران محض خوراک پر خدمت کرنے والا۔
۲۔ ضُنِكَ ضَنْكًا: زکام والا ہونا۔ أَضْنَكَهُ اللهُ: اللہ کا کسی کو زکام میں مبتلا کرنا۔ الضُّنَاك و الضُّنْكَة: زکام۔
۳۔ الضِّنَاك: مضبوط جسم والا (مذکر و مؤنث)۔ (رجلٌ ضِناكٌ: مضبوط جسم والا مرد۔ امرأةٌ ضناك: مضبوط جسم والی عورت) بڑا درخت۔ الضَّنِيك: کٹی ہوئی چیز۔
○ ضَنُكَ ـضَنْكًا و ضناكَةً: حالات کا مشکلات میں گھرا ہونا، مقید یا محدود ہونا، تنگ ہونا؛ کمزور ہونا، تھکا ہوا ہونا۔ ضَنْك: غربت، افلاس، تہی ماگی، فلاکت، مفلوک حالی، حسرت، مفلسی، مشکلات۔ عيش ضنك: سخت خراب یا گھٹیا زندگی۔ مَضَايِك: مشکلات، سختیاں۔ مُضْنِك: کمزور، تھکا ہوا۔

ضنا ا۔ ضَنِيَ ـضَنًى (واوی): بیماری سے کمزور و نحیف ہونا۔ صفت: ضَنًى و ضَنٍ۔ کہتے ہیں: تركتهُ ضَنًى و ضَنِيًا: میں نے اسے بیماری کی وجہ سے کمزور و لاغر چھوڑا۔ ضَنًى: میں مذکر، مؤنث اور جمع برابر ہیں۔ جیسے: هو ضَنًى، هي ضَنًى، هم ضَنًى و هنّ ضَنًى۔ نون کو کسرہ دینے کی صورت میں تثنیہ جمع و تانیث ضروری ہوگی۔ جیسے: هو ضَنٍ، هي ضَنِيَةٌ، هما ضَنِيَان یا ضَنِيَتان، هم أَضْنَاء، هن ضَنِيَات۔ ضَانَى مُضَانَاةً الشيءَ او الامرَ: چیز یا معاملہ وغیرہ کی تکلیف برداشت کرنا۔ أَضْنَى إِضْنَاءً المرضُ فلانًا: بیماری کا کسی کو ست و ناکارہ بنانا۔ ـ الرجُلُ: بیماری سے لاحق ہونے والی کمزوری کی وجہ سے صاحب فراش ہونا۔ تَضَنَّى: جھوٹ موٹ بیمار بننا۔ اِنْضَنَى: بیماری کی وجہ سے صاحب راش ہونا۔ الضَّنَى: بیماری، لاغری، بدحالی۔ الضِّنى: خوفناک دردیں۔
۳۔ الضِّنْو و الضَّنْو و الضَّنَى: بچے۔ کہتے ہیں: له ضنو كثير: اس کے بہت سے بچے ہیں۔

ضني: ضَنَى ـضَنْيًا و ضَنَاءً ت المرأةُ: عورت کا کثیر الاولاد ہونا۔ ـ نصيبُ فلانٍ: فلاں کے حصہ کا زیادہ ہونا۔ ضَنِيَ ـضَنًى و ضَنَاءً تِ المرأةُ: عورت کا کثیر الاولاد ہونا۔

ضهب ا۔ ضَهَبَ ـضَهْبًا هُ بالنار: کو آگ سے متغیر کرنا۔ ضَهَّبَ اللحمَ: گوشت کو نیم بریان کرنا۔ ـ القوسَ: کمان کو نرم کرنے کے لئے آگ پر تپانا۔ صفت: ضَهْباء۔ الضَّيْهَب: پہاڑ کا وہ گرم حصہ جس پر سخت گرمی پڑتی ہو اور گوشت بھونا جا سکے۔ لحمٌ مُضَهَّبٌ: نیم بریاں گوشت (قیمہ)۔
۲۔ ضَهَبَ ـضُهُوبًا: کمزور ہونا۔
۳۔ ضَهَبَ القومُ: لوگوں کا زیادہ ہونا، تیز چلنا۔ ضَهْبُ القوم: مخلوط لوگ۔
۴۔ ضَاهَبَ مُضاهَبَةً هُ: سے برابر برتاؤ کرنا، کو گالی گلوچ کرنا، کی سخت توہین کرنا۔

ضهت: ضَهَتَ ـضَهْتًا هُ: کو خوب روندنا۔

ضهد: ضَهَدَ ـضَهْدًا هُ: پر غلبہ کرنا۔ أَضْهَدَهُ و أَضْهَدَ به و اُضْطُهِدَ هُ: پر دباؤ ڈالنا، ظلم کرنا، کو ستانا اور مجبور کرنا۔ الضُّهْدَة: غلبہ، قہر۔ کہتے ہیں: هو ضُهْدَةٌ لكل أحد: جو چاہے اسے دبالے اور ظلم کا نشانہ بنائے۔ الضَّهِيد: بہت سخت۔
○ ضَهَدَ ـضَهْدًا هُ: کو دبانا، کچلنا، پر ظلم کرنا، سے ظالمانہ برتاؤ کرنا، کو اذیتیں دیتے رہنا۔ إضطهد بمعنى ضهده۔ إضطهاد جمع اضطهادات: خاتمہ، ظلم، استبداد، برابرتاؤ، سختی، بدسلوکی، ایذارسانی، غلامی۔ مُضْطَهِد: ظالم، بے انصاف، جابر فرمانروا، ظالم آمر، ایذا دینے والا، ایذا دہندہ۔

ضهر: الضَّاهِر: پہاڑ کی چوٹی، وادی۔ الضَّهْر: پہاڑ کی چوٹی، وادی، کھوا۔

ضهز: ضَهَزَ ـضَهْزًا و ضُهُوزًا هُ: کو خوب روندنا۔ ـ ت الدابةُ: جانور کا آگے کے دانتوں سے کاٹنا۔

ضهل ا۔ ضَهَلَ ـضَهْلًا و ضُهُولًا اللبنُ: دودھ کا تھوڑا تھوڑا کر کے جمع ہونا۔ ـ ت الناقةُ ونحوها: اونٹنی وغیرہ کا دودھ کم ہونا۔ صفت: ضَهُول جمع ضُهُل۔ ـ هُ حقَّهُ: کا حق کم کرنا۔ أَضْهَلَ النخلُ: درخت خرما پر کھجوروں کا پکنے لگنا۔ اِسْتَضْهَلَ الخبرَ: حسب امکان خبر حاصل کرنا۔ الضَّهْل: جمع شدہ دودھ، تھوڑا پانی۔ الضَّاهِلَة من العيون: کم پانی کا چشمہ۔
۲۔ ضَهَلَ ـضَهْلًا و ضُهُولًا و تَضَهَّلَ إلى فلان: بغیر لڑنے کی نیت کے کسی کی طرف لوٹنا۔ أَضْهَلَ إلى فلان مالًا: مال کو کسی کی طرف کر دینا۔

ضهو: الضَّهْوَاء: بے پستان اور بے دودھ عورت۔ الضَّهْوَة جمع أَضْهاء: تالاب، جوہڑ۔

ضهي: ا۔ ضَهِيَ تَضْهَى ضَهًى ت المرأةُ: عورت کا بے پستان اور بے دودھ والی ہونا۔ صفت: ضَهْيَاء

جمع ضُهَى۔ ــ الارضُ: زمین کا بنجر ہونا، بے پانی بیابان ہونا۔

۲۔ ضَاهَى مُضَاهَاةً الرجُلَ: کے مشابہ ہونا، کا ہم شکل ہونا۔ الضَهِيَ: مشابہ۔ کہتے ہیں: هو ضَهِيُّكَ: یعنی وہ تمہارے مشابہ ہے۔

ضَاهَى ہ/ ہ: جیسا، مانند، کا جوڑ، کے برابر، سے ملتا جلتا یا مشابہ ہونا یا مشابہت رکھنا۔ ــ ہ، ب، علی: کا سے مقابلہ کرنا، سے پہلو بہ پہلو رکھ کر مقابلہ کرنا۔ ــ بین / بین: دو چیزوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ ــ ب: کا نمونہ اتارنا، کا سا بنانا، کا چربہ اتارنا، کا سا ہونا، جیسا ہونا، کی نقل اتارنا، کے نقش قدم پر چلنا۔ ضَهَى: سنِ یاس، حیض کی دائمی پابندی۔ ضَهِي: جیسا، مانند، سے ملتا جلتا، مشابہ، مماثل۔ مُضَاهَاة: مشابہت، مماثلت، یکسانی، مطابقت، (کے ساتھ) مقابلہ، موازنہ (علی)۔ مُضَاهٍ: مانند، مماثل، مشابہ، ملتا جلتا، مطابق۔

ضاء: ۱۔ ضَاءَ ـَضَوءًا و ضُوءًا و ضِيَاءً القمرُ وغیرہ: چاند وغیرہ کا چمکنا روشن ہونا۔ ضَوَّأ تَضوِئَةً البيتَ: گھر کو روشن کرنا۔ أضاء إضاءَةً البيتُ: گھر کا روشن ہونا۔ البيتَ: گھر کو روشن کرنا۔ تَضَوَّأ: آگ کی روشنی میں موجود لوگوں کو دیکھنے کے لئے اندھیرے میں کھڑا ہونا۔ ــ ہٗ: ایسی جگہ جانا جہاں وہ کسی کو اس کی آگ کی روشنی میں دیکھ سکے۔ استضاءَ به: سے روشن ہونا۔ ــ من فلان: سے مشورہ کرنا۔ الضَوْءُ و الضُوءُ جمع أضْواء و الضِيَاء و الضواء: روشنی۔ المُضِيءُ و المُضِي: روشن، روشن کرنے والا۔

۲۔ ضَوَّأ تَضوِئَةً عن الامر: سے پھرنا۔

ضَاءَ ـَضَوءًا: جھلکنا، چمکنا، چمک اٹھنا، شگفتہ ہونا، شعاعیں نکلنا، یا ڈالنا، روشن ہونا۔ ضَوَّأ ہ: کو جلانا، روشن کرنا، چمکانا، میں چراغاں کرنا، کو جگمگا دینا۔ أضاءَ بمعنی ضاءَ۔ اضاء علی: پر روشنی ڈالنا۔ ــ ہ: کو روشن کرنا، جگمگانا، میں چراغاں کرنا۔ ــ ہ: (ذہن کو) روشن خیالی عطا کرنا۔ تَضَوَّأ بمعنی: ضاء۔ اِسْتَضَاءَ: جگمگانا، روشن ہونا، روشنی طلب کرنا۔ ــ ب: سے، کے ذریعے میں، کے ساتھ روشن خیالی یا بصیرت حاصل کرنے کا خواہاں ہونا، سے روشن خیالی یا رہنمائی حاصل کرنا۔ ضَوْء جمع أضْوَاء: روشنی، چمک دمک، آب تاب، تمتماہٹ۔ ضَوْءُ الشمس: سورج کی روشنی، دھوپ۔ ضوءُ القمر: چاندنی۔ ضوءٌ كاشفٌ: سرچ لائٹ search light۔ ضوء النهار: دن کی روشنی۔ علی ضوءِ: کی روشنی میں، کے حالات کے تحت، جیسا کہ، سے دکھائی پڑتا ہے، کے مطابق، بقدر، حسب، بموجب، بلحاظ، بقول، بحکم۔ ضَوئي: روشنی کا۔ سنة ضَوئِيَة: روشنی کا سال۔ ضِيَاء: روشنی، چمک دمک، آب و تاب، تمتماہٹ۔ إضاءَة: روشن کرنا۔ مِصباحُ الاضاءَةِ: تاباں لیمپ۔ مُضِي: چمکتا، روشن، تاباں تابندہ، روشنی دینے والا، رخشندہ، درخشاں، تابناک۔

ضاج: ۱۔ ضَاجَ ـَضَوجًا عن كذا: سے نفرت کرنا۔ ــ الوادی: وادی (دریا) کا کشادہ، وسیع یا فراخ ہونا۔ تَضَوَّجَ الوادی: دریا کا بل کھاتے ہوئے جانا۔ إنضاج الوادی: وادی (دریا) کا کشادہ، وسیع یا فراخ ہونا۔ إنضوج فی ضَوْج الوادی: دریا کے موڑ میں داخل ہونا۔ الضَوْج جمع أضواج: دریا کا موڑ۔

۲۔ الضوجان م ضَوجَانَة: سخت بنجر۔

ضوح: ضَوَّحَ اللبنَ: دودھ میں پانی ملانا۔

ضار: ضَارَ ـَضَوْرًا: بہت بھوکا ہونا۔ ــ ہٗ الامرُ: کسی بات کا کسی کو نقصان دینا، ایذا دینا۔ تَضَوَّرَ: بھوک یا چوٹ کی تکلیف سے لوٹ پوٹ ہونا، تڑپنا۔ ــ الذئبُ ونحوُهُ: بھوک سے بھیڑیے وغیرہ کا چیخنا، کراہنا۔ الضَور: سخت بھوک۔

۲۔ الضُور: سیاہ بادل، ابرِ سیاہ۔ الضُورَة: حقیر، ذلیل۔

ضار ـَضورًا (ہ/ہ): کو نقصان پہنچانا، زخمی کرنا، کسی کی طرف سے کسی کا دل پھرنا: شدید قسم کی بھوک لگنا، بھوکوں مرنا۔ تَضَوَّرَ: تکلیف سے لوٹ پوٹ ہونا، تڑپنا، ــ ہ: تکلیف یا بھوک سے تڑپنا، جھرجھری لینا، لوٹ پوٹ ہونا۔ ضَوْر: سخت بھوک۔

ضاز: ضَازَ ـَضَوزًا الثمرَةَ: پھل چبانا۔ ــ ہٗ حقّهُ: کو اس کا حق کم دینا۔

ضوض: ضَوْضَى ضَوْضَاةً و ضِيضَاءً: شور کرنا، غل مچانا۔ صفت: مُضَوْضٍ۔ الضَوْضَى و الضوضاء و الضيضاء: شور، غل، شور و غوغا، ہنگامہ، گڑبڑ، جنگ یا بھیڑ میں لوگوں کی چیخ پکار۔

ضوط: ضَوَّطَ الاشياءَ: چیزیں جمع کرنا۔ تَضَوَّطَ الشيءُ: کا ڈھیر لگنا۔ الضَوَط: جبڑے کا ٹیڑھا پن۔ الأضوَط: ٹیڑھے جبڑے والا، احمق۔ الضَوِيطَة: تالاب کی تہ میں موجود پتلی کیچڑ، کیچڑ، مثلاً گندھا ہوا آٹا، بے وقوف۔

ضاع: ۱۔ ضَاعَ ـَضَوعًا ہٗ: کو ہلانا، متحرک کرنا، میں ہلچل ڈالنا، کو مضطرب کرنا، ڈرانا۔ ــ المسكُ: مشک کی خوشبو پھیلنا۔ ــ الصبيُّ: روتے ہوئے لوٹ پوٹ ہونا۔ تَضَوَّعَ المسكُ و الصبيُّ: خوشبو کا پھیلنا، بچے کا لوٹ پوٹ ہونا۔ ــ و إنضاعَ الفرخُ: چوزے کا اپنی ماں کی طرف پر پھیلانا تا کہ اسے چوغہ دے۔ رجل مَضُوع: ڈرا ہوا آدمی۔

۲۔ ضَاعَ ـَضَوعًا الدابّةَ: جانور کو کمزور کرنا۔

۳۔ الضُوَعُ و الضِوَع جمع أضْوَاع و ضِيعَان (ح): بلبل، الو۔ الضُوَاع: بلبل کی آواز۔

ضَاعَ ـَضَوعًا: خوشبو کا پھیلنا، منتشر ہونا، نکلنا، (کسی چیز کا) خوشبودار ہونا، معطر ہونا، خوشبو چھوڑنا۔ تَضَوَّعَ: بمعنی ضَاعَ۔

ضاف: ضَافَ ـَضَوفًا عن الشيء: سے ہٹنا، تجاوز کرنا۔

ضان: ۱۔ ضَانَ ـَضَونَةً و تَضَوَّنَ تَضَوُّنًا: کثیر الاولاد ہونا۔ الضَوْنَة (مص): چھوٹی لڑکی۔

۲۔ الضَيْوَن جمع ضَيَاوِن (ح): بلا۔

ضوّ: الضَوَّة: شور غوغا، چیخ پکار، ہنگامہ، کہرام، لڑائی کا شور۔

ضوی: ۱۔ ضَوِيَ ـَضَوًى: پیدائشی یا دبلے پن سے پتلی ہڈی والا ہونا۔ أضْوَى: نحیف و دبلا ہونا۔ ــ الرجُلَ: کو کمزور کرنا۔ ــ ہٗ حقّهُ: کو اس کا حق کم دینا۔ ــ الأمرَ: کچا کام کرنا۔ ــ ت المرأةُ: عورت کا کمزور بچہ جننا۔ الضَاوِي م ضَاوِيَّة: کمزور، دبلا، پیدائشی یا کمزوری کی وجہ سے دبلے پتلے جسم والا۔

۲۔ ضَوَى ـِضَيًّا و ضُوِيًّا اليه: سے جا ملنا، کی پناہ لینا۔ ــ ہٗ اليه: کو کی طرف مائل کرنا۔ أضْوَى ہٗ إليه: کو کی طرف مائل کرنا، جھکانا۔ إنْضَوَى إنْضِوَاءً اليه: کے ساتھ اتحاد کرنا، سے متحد ہو جانا۔

۳۔ ضَوَى ـِضَيًّا و ضُوِيًّا الرجُلُ: رات کو آنا۔ الضَاوِي (فا): رات کو آنے والا۔

ضَوَى ـَضَوًى إلى: کے پاس جایا کرنا، سے رجوع کرنا۔ ضَوِيَ ـَضَوًى: کمزور ہونا، پتلا ہونا، دبلا ہونا، دھان پان ہونا، چھوٹا ہونا۔ أضْوَى ہ/ ہ: کو کمزور کرنا، کمزور، ناتوان یا ضعیف بنانا یا کرنا، کو تکلیف پہنچانا، زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، سے دل پھیرنا۔ إنْضَوَى الی: کے ساتھ شامل ہونا، کے نقش قدم پر چلنا، سے لگاؤ ہونا، کے گرد (یا تحت لواء ہ) کے جھنڈے تلے جمع ہونا، مل کر بیٹھنا یا چلنا۔

ضاج: ضَاجَ ـِضَيجًا و ضُيوجًا و ضَيَجَانًا عنه و اليه: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔ ــ ت عظامُهُ: لاغری کی وجہ سے کی ہڈیوں کا ہل جانا۔

ضاح: ۱۔ ضَاحَ ـِضَيحًا ت البلادُ: ملک کا خالی ہونا،

ویران ہونا۔

۲-ضَاحَ -ضَیْحًا اللبنَ: دودھ میں پانی ملانا۔ ضَیَّحَ اللبنَ: دودھ میں پانی ملانا۔ فلانًا: کو پانی ملا دودھ پلانا۔ تَضَیَّحَ اللبنُ: دودھ کا پانی کی ملاوٹ والا ہو جانا۔ الرجلُ: پانی ملا دودھ پینا۔ الضَّیح (مص): شہد۔ و الضَّیَاح: پانی ملا دودھ، شوربا۔ الضَّیحةُ: پانی ملے دودھ کا مشروب۔ عیشٌ مَضیُوحٌ: ملاوٹی غذا۔

ضار: ضَارَ -ضَیرًا ہٗ الامرُ: کام یا بات کا کسی کو نقصان دینا، ایذا دینا۔

ضاز: ضَازَ -ضَیزًا: ظلم کرنا۔ ہٗ حقَّہٗ: کو اس کا حق کم دینا۔ الضَّیزُ (مص): ٹیڑھا پن، کجی۔ قِسمةٌ ضِیزَیٰ: ظالمانہ تقسیم۔

ضاط: ضاط -ضَیطًا و ضَیَطانًا فی مشیته: موٹاپے کی وجہ سے چلنے میں جسم اور کندھوں کو ہلانا۔ صفت: ضَیطان و ضیّاط۔

ضاع: ۱-ضَاعَ -ضَیعًا و ضِیعًا و ضَیعَةً و ضَیَاعًا: ضائع ہونا، ہلاک ہونا، تلف ہونا، بیکار ہونا۔ صفت: ضائع جمع ضُیَّع و ضِیَاع۔ ضَیَّعَ الشیءَ: کو کھونا، گم کرنا، نظر انداز کرنا، ہلاک کرنا۔ مثل ہے: الصیفَ ضَیَّعتِ اللبنَ: تو نے دودھ تو گرمیوں میں ہی ضائع کر دیا۔ أَضَاعَ ہٗ: کو ضائع کرنا۔ الضَّیَاعُ (مص) والضِّیع الضَّیع۔ کہا جاتا ہے: مات ضَیَاعًا و ضِیعًا و ضَیعًا: اس کے مرنے پر کسی نے اس کی کمی نہ تو بری طرح محسوس کی اور نہ کوئی اس کے بارے میں پریشان ہوا۔ الضَّیعَة: تصغیر ضُیَیعَة جمع ضِیَع و ضِیَاع و ضَیعات: ضاع کا اسم مرۃ۔ المِضیَاع: بہت ضائع کرنے والا۔ المَضیَعَة و المَضِیعَة: جہاں ضائع ہونے کے متعدد اسباب ہوں۔ کہتے ہیں: بلدکم مضیعةُ العلم: یعنی تمہارے شہر میں علم ضائع ہو رہا ہے۔

۲-أَضَاعَ الرجلُ: بہت جائداد والا ہونا۔ الضَّیعَة (تصغیر ضُیَیعَة جمع ضِیَع و ضِیَاع و ضَیعات: جائداد، اچھی فصلیں دینے والی زمین، پیشہ، ہنر، کہتے ہیں: کانت ضَیعَةُ العرب سیاسةَ الإبلِ: عربوں کا پیشہ، اونٹوں کی دیکھ بھال تھا۔

۳-تَضَیَّعَ المسکُ: مشک کا بھڑکنا، مشک کی خوشبو کا پھیلنا۔ الضَّیَاع: ایک قسم کی خوشبو۔

۞ ضَاعَ -ضَیعًا و ضَیَاعًا علی: کیلئے کھو جانا، گم ہو جانا۔ __ غائب ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، ہلاک ہو جانا۔ ضَیَّعَ و أَضَاعَ (ہ/ہ): کو تباہ کرنا، ہلاک کرنا، کی راہ میں حائل ہونا، میں مزاحم ہونا، کو ناکام بنا دینا، بگاڑنا، خراب کرنا، کا ستیاناس کرنا۔ __ ہ کو گنوانا، کھونا، گم کرنا، سے محروم ہو جانا، کو اجاڑنا، اڑانا، ضائع کرنا، بے فائدہ خرچ کرنا، نظر انداز کرنا، میں غفلت کرنا، پر نہ لگ سکنا، (موقع) گنوا دینا۔ أَضَاعَ صَوَابَہٗ: طیش میں آنا۔ ضَیَّعَ حقَّہٗ: اپنے حق سے محروم ہونا۔ الصَّیفَ ضَیَّعتِ اللبنَ: تم نے موقع گنوا دیا، کھو دیا۔ أَضَاعَ عَلیهِ فرصةً: کے ہاتھ سے موقع نکال دینا۔ اضاع الوقت: ضائع کرنا۔ ضَیعَة جمع ضِیَاع: زمینداری، تعلقہ، دیہی جائداد، جاگیر، چھوٹا گاؤں، کھیڑا۔ ضِیَاع: نقصان، خسارہ، تباہی، ستیاناس۔ ضیاعُ الوقت: وقت کا ضیاع۔ مِضیَاع: فضول خرچ، مسرف، ضائع کرنے والا۔ اضاعة الوقت: وقت کا ضائع کرنا۔ ضائع جمع ضُیَّع و ضِیَاع: ضائع، گم، غریب، مصیبت زدہ۔ مَضیعَة: تباہی، بربادی، نقصان۔ مُضِیعَةٌ للوقت: وقت کا ضیاع۔ مُضَیِّع: فضول خرچ، مسرف، ضائع کرنے والا۔

ضاف: ۱-ضَافَ -ضَیفًا الیه: کی طرف مائل ہونا، ہٹنا۔ __ ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے لئے جھکنا۔ __ السهمُ عن الهدف: تیر کا نشانہ سے ہٹ جانا۔ ضَیَّفَ ہٗ الیه: کو اپنی طرف جھکانا۔ __ الرجلُ: مائل ہونا، ہٹنا۔ __ تِ الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے لئے جھکنا۔ أَضَاف علیه: جھانکنا، کے قریب ہونا، کا بندوبست کرنا۔ __ الشيءَ إلی الشيءِ: کو کی طرف جھکانا، کو کا سہارا دینا، کو سے ملانا۔ __ الکلمة الی الکلمة: خاص طریقہ سے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف نسبت کرنا۔ تَضَیَّفَ الرجلُ: مائل ہونا۔ __ ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے لئے جھکنا۔ تَضَایَفَ الوادی: وادی کا تنگ ہونا۔ إِنْضَافَ الیه: سے مل جانا۔ الضِّیفُ: پہلو۔ کہتے ہیں: هو فی ضِیف فلان: وہ فلاں کے پہلو میں ہے۔ المُضَاف: اتحادی، منہ بولا بیٹا۔ مَضَایف الوادی: وادی کے پہلو۔

۲-ضَافَ -ضَیفًا و ضِیَافَةً ہٗ: کا مہمان ہونا۔ (کہتے ہیں: ضاف الهمُّ فلانًا: پریشانی نے اُسے آلیا)، سے مہمانی طلب کرنا۔ ضَیَّفَ ہٗ: کو مہمان بنانا، کو ضیافت کا کھانا پیش کرنا۔ أضاف الرجلَ: کو پناہ دینا، مجبور کرنا۔ __ فلانا علی فلان: فلاں کو فلاں پر مہمان اتارنا۔ __ تَضَیَّفَ ہٗ: کے پاس بطور مہمان آنا، سے ضیافت طلب کرنا۔ اِستَضَافَ ہٗ: ضیافت طلب کرنا۔ __ بہ: سے فریاد کرنا۔ __ من فلان إلی فلان: سے کی پناہ لینا۔ الضَّیفُ: مہمان مفرد اور جمع کیلئے مونث ضَیفٌ و ضَیفَة جمع أَضیاف و ضُیُوف و ضِیَاف و ضِیفَان و أَضَائِف: الضَّیفَنُ: طفیلی جو مہمان کے ساتھ آئے۔ الضِّیَافَة: مہمانی۔ المُضَاف فی الحرب: جنگ میں گھرا ہوا۔ المَضِیف و المَضِیفَة: مہمان خانہ۔ المِضیَاف: بڑا مہمان نواز، بہت مہمانوں والا، میزبان۔ المَضِیفَة: غم فکر۔ __ المُضِیفة: غم فکر۔ __ جمع مُضِیفَات: (آج کل) ہوائی میزبان خاتون (airhostess)

۳-ضَافَ -ضَیفًا الرجلُ: خوف کرنا۔ __ منه: سے ڈرنا۔ أَضَافَ: خوف کرنا۔ __ منہٗ: سے ڈرنا۔

۴-أَضَافَ الرجلُ: دوڑنا، جلدی جلدی چلنا۔

۞ ضَافَ -ضِیَافَةً: بطور مہمان رکنا یا ٹھہرنا۔ ضَیَّفَ ہٗ: کو مہمان ٹھہرانا، کا مہمان نوازی سے استقبال کرنا، کی مہمان نوازی کرنا، کو کھانا کھلانا، کی دعوت کرنا۔

أضاف: بمعنی ضَیَّفَ۔ نیز أضاف ہ إلی: میں کا اضافہ کرنا، کو کے آخر میں لگا دینا، جوڑ دینا، کو میں شامل کرنا، کو سے منتھی کرنا، جوڑنا، مربوط کرنا، کو سے منسوب کرنا، کو سے نسبت دینا، کو پر محمول کرنا۔ اضاف اسما إلی اسم: نام کی دوسرے سے اضافت کرنا۔ أَضِف إلی ذلك ان: مزید برآں یہ کہ۔ انضاف الی: میں جمع ہونا، سے منتھی ہونا، مربوط ہونا، کے آخر میں لگنا یا جڑنا۔ اِستَضَافَ ہٗ: کو اپنا مہمان بنانے کی دعوت دینا، کی میزبانی کرنا۔ انت فی ضیافتی: آپ میرے مہمان ہیں۔ مَضَافَة: ہوسٹل، گیسٹ ہاؤس، سرائے۔ مَضِیفَة: مہمانوں کا کمرہ، گیسٹ ہاؤس۔ بالاضافه الی: کے مقابلہ میں، مزید برآں، علاوہ ازیں۔ مُضَافًا إلی ذلك: مزید برآں، علاوہ ازیں۔

ضاق: ضَاقَ -ضِیقًا و ضَیقًا: تنگ ہونا۔ صفت: ضَیِّق و ضَائِقٌ و ضَیْق۔ __ الرجلُ: بخیل ہونا، بخل کرنا۔ ضَیَّقَ تضییقًا ہٗ: کو تنگ کرنا۔ ضُیِّقَ علیه: مشکل میں ڈالا جانا، دباؤ میں ہونا۔ أَضَاقَ إضاقةً ہٗ: کو تنگ کرنا۔ __ الرجلُ: محتاج ہونا، حاجت مند ہونا۔ تَضَیَّقَ: تنگ ہونا۔ تَضَایَقَ: تنگ ہونا۔ __ الامرُ بہ او علیه: پر کام کا مشکل ہونا۔ کہتے ہیں: تَضَایَقَ القومُ: لوگوں کا کسی جگہ پر بے چینی محسوس کرنا، بے آرامی محسوس کرنا، کشادہ دل نہ ہونا یا کشادہ مکانوں والے نہ ہونا۔ الضِّیق (مص): غم و فکر جس سے سینہ

تنگ ہو جائے، سختی ۔۔۔ و الضيق. تنگ ۔ الضِيق (مص). شدت ۔ الضِيقة و الضَيْقَة جمع ضِيَق و ضَيْق. بدحالی، افلاس، تنگدستی محتاجی ۔ الضائِق جمع ضَاقة (جیسے سائد و سادہ): تنگ ۔ کہتے ہیں: فلانٌ ضائقٌ صدرُهُ بكذا فلاں شخص اس سے سینہ تنگ ہے ۔ الأضْيَق م ضِيْقَى و ضُوْقَى اسم تفضیل (زیادہ تنگ، تنگ تر) ۔ المَضِيق جمع مَضَايِق تنگ جگہ، مشکل کام، آبنائے، (پہاڑی) درہ، تنگ درہ، گھاٹی۔

○ ضاقت به الارضُ: سمجھ میں نہ آنا کہ کیا کرے، بدحواس ہو جانا ۔ ضَاقَتْ به الحياة زندگی نے اسے بزدل کر دیا، اس پر براوقت آ گیا ۔ ضاقت بـه السبُلُ اس سے آگے اس کا بس نہ چلتا تھا، اسکی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے، وہ بدحواس ہو گیا ۔ ضاقَ ذرْعاً بـ کے معیار پر پورا نہ اترنا، کچھ کرنے سے قاصر رہنا، کسی چیز کو برداشت نہ کر سکنا، سے اکتا جانا، تھک جانا، بے زار ہو جانا، کے متعلق بے چین ہونا، کا ستایا ہونا ۔ ضاق عنـه ذرْعًا بمعنی ضَاق ذَرْعًا بـ ضاق صدرُهُ: برہم ہونا، جھنجلایا ہوا ہونا، ناراض ہونا، غصہ میں ہونا ۔ ضاقت يدُه عن سے قاصر رہنا، کا نااہل ہونا، اتنا غریب ہونا کہ .... ، ضَيَّقَ على کو دق کرنا، ستانا، پریشان کرنا، زچ کرنا، کچلنا، پر ٹوٹ پڑنا، چاروں طرف سے حملہ کرنا، گھیر لینا ۔۔۔ على فی: کو کسی چیز کے بغیر رکھنا ۔ ضَيَّق الحصار: ناکہ بندی سخت کر دینا ۔ ضايَقَ ہٗ: کو پریشان کرنا، دق کرنا، ستانا، زچ کرنا، غصہ دلانا، تنگ کرنا، پر چاروں طرف سے حملہ کرنا، ٹوٹ پڑنا ۔ ہ / ہ: کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، امن تباہ کرنا، میں خلل ڈالنا، کو درہم برہم کرنا، روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، میں روڑا اٹکانا، رکاوٹ ڈالنا، کو سخت متاثر کرنا، کو بری طرح پچھاڑنا یا زیر کرنا یا اس پر بوجھ ڈالنا، کی پریشانی کا باعث بننا ۔ تضايق: تنگ ہونا یا ہو جانا، پریشان ہو جانا ۔۔۔ من: پر یا کے متعلق ناراض ہونا، غصہ ہونا ۔ ضِيْقُ ذاتِ اليد: غربت افلاس، بے نوائی ۔ ضِيقُ المقام: کھلی جگہ کا فقدان، محدودیت ۔ ضَيق النطاق: کھلی جگہ کی عدم موجودگی، تھوڑا فاصلہ، محدود حد، تنگ جگہ ۔ ضِيق اليد: غربت افلاس، بے نوائی ۔ ضَيِّق: تنگ، کسا ہوا، مضبوطی سے لگا ہوا، مقید، محدود ۔ ضَيِّقُ الصدر ب: پر پریشان، سے، پر ناراض ۔ ضيق العقل: تنگ نظر ۔ ضَيِّقُ النطاق: تھوڑا فاصلہ، تھوڑی دسترس یا رسائی والا، محدود ۔ ضَيِّقة: تنگ حالات، غربت، افلاس، کوفت سخت اذیت ۔ ضائِقه جمع ضوائق ناگوار صورت حال، خطرناک صورت مشکلات، مشکل، تشویشناک نازک صورت حال، بحران ۔ ضائِقَة العيش: پُر مشکلات حالات ۔ ضائقة ماليه: مالی مشکلات۔

ضاك: ضَاكَ ـَـ ضَيْكَات الناقةُ: سخت گرمی کی وجہ سے اونٹنی کا ٹانگیں چوڑی کر کے چلنا اور رانوں کو تھنوں سے نہ ملا سکنا ۔ صفت: ضَائِك جمع ضُيَّك ۔۔۔ عليه (غيظًا) پر طیش میں بھر جانا۔

ضيل: أَضَالَ إضالةً و أَضْيَلَ إضيالاً المكانُ جگہ کا ضال نامی درخت اگانا ۔ الضال جس کا واحد ضالة ہے: ایک پھل دار درخت جو افریقہ کے شمالی ساحلوں پر اگتا ہے ۔ الضالة: ہتھیار۔

ضام: ضَام ـَـ ضَيْماً هُ: پر ظلم کرنا، دباؤ ڈالنا ۔۔۔ و استضامَ هُ حقهُ: کا حق کم کرنا ۔ الضَيْم ظلم جمع ضُيُوم ۔ ضِيمُ الجبل: پہاڑ کا کنارہ ۔ الضامة حاجت، ضرورت۔

○ ضَامَ ـَـ ضَيْماً ہ: پر ظلم کرنا، کو نقصان پہنچانا، سے ناانصافی برتنا ۔ اِسْتَضَامَ ہ: بمعنی ضَامَ ہ ۔ ضَيْم جمع ضُيُوم: ظلم، ناانصافی، نقصان۔

ط

ط حروف تہجی کا سولہواں اور حروف ابجد کا نواں حرف۔

طاطا ۱۔ طَأطَأَ الرأسَ وغيرَه سر وغیرہ جھکانا، کہتے ہیں۔ طاطا راسه عن كذا اس نے اس پر اپنا سر نیچا کرلیا۔ ت المرأةُ سترها عورت کا پردہ ڈالنا۔ الحفرةَ گڑھے کو گہرا کرنا۔ فلانٌ من فلان کو مرتبے سے گرا دینا۔ ۔ في قتل القوم لوگوں کو خوب اور شدت کیساتھ قتل کرنا۔ تطَاطَأَ جھکنا، پست ہونا، نیچا ہونا۔ الطأطاء پست زمین۔ (ج) چھوٹا اونٹ، ننھا اونٹ۔

۲۔ طأطأ فرسَه گھوڑے کو دوڑانے کے لئے اسکی دونوں کوکھوں میں ایڑ لگانا۔ يده بالعنان دوڑانے کے لئے باگ کو ڈھیلی چھوڑ دینا۔

○ مُطاطِئ سر جھکائے ہوئے۔ مُطأطأُ الراس سر جھکائے ہوئے۔

طب ۱۔ طبَّ ۔ طِبًّا ہُ کا علاج کرنا، کہتے ہیں۔ ما كنتَ طبيباً ولقد طَبِبْتَ او طَبَبْتَ تم طبیب نہ تھے مگر اب طبیب بن گئے ہو۔ الرجلُ صبر و تحمل سے کام لینا، نرمی کرنا۔ مثل ہے۔ من احبَّ طبَّ: جو دوست رکھتا ہے، نرمی اور تحمل سے کام لیتا ہے، کہتے ہیں۔ اصنعه صنعة من طبَّ لمن حبَّ اس شخص جیسا معاملہ کرو جو کسی کے ساتھ محبت کرے تو نرمی کرتا ہے۔ طُبَّ الرجلُ کس پر جادو کیا جانا۔ طبَّبَ ہُ کا علاج کرنا۔ طابَّ مُطابَّةً الامر کسی کام پر توجہ کرنا۔ تطبَّبَ زیر علاج ہونا، حکمت کرنا، حکیم بن جانا۔ الرجلُ طبی میدان میں مشغول ہونا، عطائی بننا۔ لفلان کے لئے طبیبوں سے مشورہ کرنا۔ استطبَّ ہُ سے دوا تجویز کرانا، طبیب سے مشورہ لینا۔ الطبّ (مص) طب جاننے والا، اپنے کام کا ماہر، کہتے ہیں۔

هُوَ طَبٌّ بهذا الامر وہ اس کام سے واقفیت رکھتا ہے۔ والطِبّ الطُبّ جسمانی و روحانی علاج، جادو، نرمی۔ الطَبَّة: الطَبّ کا مونث۔ الطِباب وہ چیز جس سے علاج کیا جائے۔ کہتے ہیں۔ هذا طِبابُ مرضك یہ چیز تمہاری بیماری کا علاج ہے۔ الطِبابة: طبیب کا پیشہ۔ الطبيب جمع أطبّة و اطِبّاء م طبيبة: علم طب کا جاننے والا، فن طب کا ماہر و حاذق۔

۲۔ طبَّ ۔ طَبًّا خرَزَ القربة مشک میں پیوند لگانا۔ طبَّبَ القربةَ مشک میں پیوند لگانا۔ الطابة من الخرز دو سوراخوں کے درمیان تسمہ۔

۳۔ طبَّبَ الخيّاطُ الثوبَ درزی کا کپڑے میں پیوند لگا کر اسے بڑھانا۔ الطِبّة جمع طِبَب و الطِبابة جمع طِباب کپڑے، بادل، کھال، یا زمین کا مستطیل ٹکڑا۔

۴۔ الطِبّ ارادہ، خواہش، حالت، عادت کہتے ہیں۔ فلانٌ طِبُّهُ المجون فلاں کی عادت مذاق کی ہے۔ الطَبّة کنارہ کہتے ہیں۔ هو في تلك الطَبَّة: وہ اس کنارہ میں ہے۔

۵۔ طَبْطَبَ طَبْطَبَةً الماءُ او السيلُ پانی یا سیلاب کا آواز دینا۔ الوادي دریا کا بہنا۔ الماءَ پانی کو حرکت میں لانا۔ الطَبْطابة گیند کا بلا۔ الطَبْطَبِيّة مارنے کا کوڑا۔

○ طَبَّ ۔ طُبًّا و طِبًّا و طَبَّاه / ہ کا دواؤں سے علاج کرنا، کو طبی علاج مہیا کرنا۔ طبّ ل کا چارہ کرنے کی کوشش کرنا، سے نبٹنا۔ طبَّبَ ہ / ہ کا علاج کرنا، کو طبی علاج مہیا کرنا۔ تطبَّبَ طبی علاج کروانا، حکمت کرنا، طبی میدان میں مشغول ہونا۔ استطبّ ہ سے طبی مشورہ طلب کرنا، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا۔

طِبّ طبی علاج، دوا، علم طب۔ طب الاسنان فن علاج دندان، دندان سازی۔ الطب البيطري حیوانات کی بیماریوں اور علاج کا علم۔ (Veterinary Science)۔ الطب الشرعي عدالتی طب Forensic mdecine۔ الطب النفساني نفسیاتی امراض کا علاج۔ (psychiatry) علمُ الطب علم طب، طب۔ كُلِّيَّةُ الطب طبی کالج (medical college)۔ طبي طبی، علم طب یا طبی پیشہ سے متعلق۔ لائقٌ طِبِّيًّا جسمانی طور پر موزوں Physically fit طَبَّة جمع طَبّات گدی، تکیہ، ڈاٹ۔ (بجلی کا) پلگ (پانی کا) ڈاٹ، پلگ plug، کاگ Stopper۔ طَبيب جمع اطبّاء و اطِبّة: حکیم، ڈاکٹر (physician, doctor) طبيب بيطري: ڈنگر ڈاکٹر (veterinarian) طبيب خاص پرائیویٹ ڈاکٹر طبيب الاسنان: دانتوں کا ڈاکٹر (dentel surgeon) طبيب شرعي: طبی ممتحن medical examiner طبيب الامراض الجلدية جلدی امراض کا ڈاکٹر (Dermatolo- gist) طبيبه خاتون ڈاکٹر۔ طِبابة طبی علاج، طبی پیشہ۔ تطبيب صحت یاب کرنے کا فن، طبی پریکٹس یا پیشہ۔ مُتطبِّب عطائی۔

طبج: طَبِجَ ۔ طَبَجًا الرجلُ بیوقوف ہونا۔ صفت۔ أطبَجُ ۔ على رأسه وعلى كل أجوف سر یا ہر کھوکھلی چیز پر مارنا۔ تطبَّجَ في الكلام مختلف رنگوں میں کلام کرنا۔

طبخ ۱۔ طَبَخَ ۔ طَبْخًا و طَبَّخَ اللحمَ گوشت پکانا۔ اِطَّبَخَ الرجلُ پکی ہوئی چیز لینا، اپنے لئے پکانا۔ اللحمَ گوشت پکانا۔ انطبَخَ پکنا۔ الطَبْخ (مص) و الطِبْخ پکی ہوئی چیز۔ الطُباخة ہانڈی کا

جھاگ، پکی ہوئی چیز۔الطِباخۃ: پکانے کا ہنر، باورچی گری۔الطَباخ: پکانے والا اس کو طاہی بھی کہا جاتا ہے۔عند العامۃ: عوام کے نزدیک انگھٹی۔ مناسب ہے کہ اسے مَنصَب کہا جائے۔طَبَاخُ العنبِ والتین عند العامۃ: عوام کے نزدیک کہر جو پہاڑوں میں انگوروں اور انجیروں کے پکنے سے پہلے پھیل جاتی ہے اور ان کے پلنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔الطبیخ ج أُطبِخۃ: پکی ہوئی چیز، چونہ، پختہ اینٹ۔الطابِخ (فا) شدید بخار، تیز بخار۔الطابخۃ: طابخ کا مونث۔دوپہر۔المَطبَخ جمع مَطابِخ: باورچی خانہ۔المِطبَخ جمع مطابخ: کوئی بھی کھانا پکانے کا آلہ، جیسے چولہا، انگیٹھی، ولایتی چولہا۔المُطبَخ و المُطَبَّخ: باورچی خانہ۔التینُ المَطبُوخ (ط): انجیر سے تیار کردہ ایک کھانا۔

۲۔ طَبَخَ الصبیٰ: بچہ کا بڑھنا۔

۳۔ الطَباخ و الطُباخ: مضبوطی، طاقت، موٹاپا کہتے ہیں۔مافی کلامہ طباخ: اسکی گفتگو میں کوئی فائدہ نہیں۔الأطبُخ: احمق، بہت زیادہ بیوقوف۔

طَبَخَ ـُ طَبخاً: کو پکانا۔انطَبَخَ: پکنا، پکوایا جانا۔طَبخ: پکانا۔طباخی، پکائی ہوئی کوئی کھانے کی چیز۔سیلولائڈ Celluloid۔طُبخۃ: پکائی ہوئی خوراک کی کوئی چیز، کھانا، ڈش، کھانے کا دور، دور طعام۔طَبّاخ: خانساماں، باورچی۔طَبِیخ: پکی ہوئی کھانے کی چیز، کھانا۔طِباخۃ: پکانے کا فن، طباخی، پکوان کا طریقہ۔طرز طباخی۔مَطبَخ جمع مطابِخ: باورچی خانہ، طعام گاہ۔

طبر: طَبَرَ ـُ طَبراً: کود کر چھپ جانا۔الطَبَر و الطَبَرزِین: کلہاڑا، یہ دونوں فارسی لفظ ہیں۔الطَبَری: طبرستان کا، طبرستان سے متعلق۔

طبز: طَبَزَ ـُ طَبزاً ہُ: کو بھر دینا۔الطِبز: پہاڑ کا کونا، ٹکڑ (ح) دو کوہانوں والا اونٹ۔

طبس: طَبَسَ ہُ: کو گارے سے لیپنا۔الطِبس: ہر ایک کالی چیز۔الطِبس (ح) بھیڑیا۔بحرٌ طَبِیسٌ: بہت پانی والا بڑا دریا یا سمندر۔

طبش: ا۔ الطَبش: لوگ۔الطَبشۃ: بچوں کو مارنے کی لمبی چھڑی۔ یہ عام زبان ہے۔فصیح لفظ المِخفقۃ ہے۔

۲۔ الطَبشُورۃ جمع طَباشِیر: چاک

طبع: طَبَعَ ـَ طَبعاً الشیءَ: کی تصویر بنانا۔علیہ: پر مہر لگانا۔کہتے ہیں۔طبع اللہ علی قلبہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی جس سے وہ غور کرنے اور نیکی کی توفیق سے محروم ہو گیا۔الدِرہم: سکہ ڈھالنا۔السیفَ: تلوار بنانا، ڈھالنا۔اللّٰہُ الخلقَ: اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو پیدا کرنا۔طُبِع علی الجھل: جہالت پر پیدا کیا جانا۔طَبَعَ الدابۃَ عند العامۃ: عوام کے نزدیک، جانور کو سدھانا۔صحیح لفظ راضھا ہے۔

تَطَبَّعَ: بھرنا، ڈھلنا۔بطباع ابیہ: اپنے باپ کے سے اخلاق و اطوار اختیار کرنا۔انطَبَعَ: ڈھلنا، منقوش ہونا، نقش ابھرنا۔الطَبع: (مص) جمع طِباع: فطرتی خصلت، نمونہ، شکل مثال کہا جاتا ہے۔اضربُہُ علی طبع ھذا: اسے اس کی شکل پر ڈھالو۔الطابِع (فا): فطری خصلت مزاج۔۔۔۔و الطابَع جمع طَوابِع: انگوٹھی، مہر، چھاپ۔کہا جاتا ہے ھذا کلامٌ علیہ طابَعُ الفصاحۃ: اس کلام پر فصاحت کی چھاپ ہے۔طوابعُ البرید: ڈاک کے ٹکٹ۔عوام اسے اوراق البول کہتے ہیں۔الطوابع الأمیریّۃ: رسیدی ٹکٹ۔الطوابع القنصلیۃ: وہ ٹکٹ جو قونصل استعمال کرتے ہیں۔الطِباع: فطری خصلت، مزاج۔الطَبّاع: طابع اسم فاعل کا مبالغہ، تلوار ساز۔الطِباعۃ: چھاپنے کا پیشہ۔دار الطباعۃ: چھاپہ خانہ، پرنٹنگ پریس۔الطُبعان: مہر لگانے کی چیز۔الطَبِیعۃ: فطرت، مزاج، فطرتی، عادت جمع طَبائِع: مخلوقات جن سے دنیا بنی ہے جیسے کہتے ہیں۔جمالُ الطبیعۃ: یعنی دنیا کا حسن۔الطبائعُ الأربعُ: سردی، گرمی، خشکی، تری۔الطَبیعی: طبیعت سے مختص، جو ہر چیز کو طبیعت کی طرف منسوب کرے۔علم طبیعیات کا ماہر۔علم الطَبِیعیّات: علم خواص اشیاء۔المَطبَعَۃ و المَطبَع جمع مَطابِع: چھاپہ خانہ۔المِطبَعۃ جمع مَطابِع: چھاپنے کی مشین، پریس۔المَطبُوع (مفع): قدرتی غیر بناوٹی، غیر ظاہرداری پر مبنی، جس پر طبیعت کی نشو و نما ہوئی ہو۔من الشعراء: بلاتکلف شعر کہنے والا شاعر۔

۲۔ طَبَعَ ـَ طَبعاً الدلوَ: ڈول بھرنا۔طَبَعَ الاناءَ: برتن بھرنا۔تَطَبَّعَ النھرُ بالماء: دریا کے پانی کا کناروں سے بہہ پڑنا۔الطِبع جمع طُبُوع و طِباع: پانی جذب ہونے کی جگہ، پیمانہ بھر مشکیزہ، دریا۔

۳۔ طَبِعَ ـَ طَبَعاً: گندا ہونا، میلا کچیلا ہونا، گندے اخلاق والا ہونا۔السیفُ: تلوار پر زنگ چڑھنا۔صفت طَبِعٌ و أَطبَع۔طَبَّعَ الاناءَ: برتن گندا کرنا۔الطِبع و الطَبَع جمع أطباع: زنگ، میل، عیب۔الطَبِع: بد خلق، کمینہ خصلت۔سیفٌ طَبِعٌ: زنگ آلود تلوار۔

طُبِعَ علی: کے لئے قدرتی رجحان رکھنا یا میلان رکھنا۔طَبَعَہٗ بطابِعِہٖ: پر اپنی چھاپ لگانا یا چھوڑنا، کو اپنی امتیازی خصوصیت دینا۔طُبِعَ علیہ: میں جبلی ہونا، پیدائشی یا خلقی ہونا۔طَبَّعَ ہ: جانور کو پالتو بنانا، سدھانا۔تَطَبَّعَ بطابِعِہ: کی خصوصیت اختیار کرنا یا پانا، کی چھاپ رکھنا۔انطَبَعَ: مہر لگنا، نقش ابھرنا، چھپنا، منقوش ہونا، نقش ہونا، دل میں بیٹھنا۔انطَبَعَ فی: پر نقش یا ٹھپا چھوڑنا، پر اثر یا تاثر یا دھندلا سا تصور چھوڑنا۔انطَبَعَ علی: کے لئے افتاد طبع رکھنا۔طَبعٌ: (کتاب وغیرہ) چھاپنا، طبع، مطلوبہ چیز، چھاپا۔جمع طِباع: اثر، تاثر، ٹکٹ، مہر، نشان، خصوصیت، انوکھا پن، وصف، طبیعت، مزاج، خو، افتاد طبع، فطرت، خصلت (فطری) میلان۔طبعُ الحجر: پتھر کی چھپائی۔طبع الحروف: ٹائپ میں چھاپنے کا فن۔تحت الطبع: زیر طبع۔مُسَوَّدَۃُ الطبع: پروف شیٹ، Proof sheet، گیلی پروف (galley proof)۔

اعادۃ لطبع: دوبارہ چھپائی۔طَبعاً یا بالطَبع: قدرتی طور پر، یقیناً، لازماً، قطعی۔سیّئُ الطبع: بد باطن، خبیث فطرت، بدمزاج۔شاذ الطبع: سنکی، منحرف المزاج، نامعقول۔طَبعَۃ جمع طَبَعات: چھاپنا، چھپائی، مطبوعہ چیز، چھپی ہوئی چیز، چھاپا، اشاعت، ایڈیشن، شمارہ، تاثر، دھندلا سا تصور۔

طَبّاع: چھاپہ خانہ میں کام کرنے والا، چھاپنے والا۔طِباعۃ فنِ طباعت آلۃ الطباعۃ: چھاپنے کی مشین Printing Press۔طِباعی: طباعتی طبیعۃ جمع طَبائِع: کائنات، عالم طبیعی، کارخانہ وقدرت، فطرت قوانینِ قدرت، نوامیس فطرت، مناظر فطرت، مظاہر فطرت، پیدائشی، فطری یا خلقی مزاج، افتاد طبع، طبیعت، میلان، بدن، جسم، جسم کی ساخت، صحت، جسمانی حالت، بناوٹ، ساخت، ترکیب، خصوصیت، انوکھا پن، شخصیت، انفرادیت، ذہنیت، فطرت، امتیازی خصوصیت، معمول کے مطابق طریقہ، انداز، اسلوب، طور طریقہ، وضع قطع، چال ڈھال، طبیعیات، فطری علم۔بِطَبیعَۃِ الحال: صورت یا حالت کی نری قسم یا نوعیت کی رو سے، قدرتی طور پر، خلقی طور پر، فطرۃً، لازماً، اس وجہ سے، اسی باعث (Ipso facto)

عالِمُ الطبیعۃ: ماہر طبیعیات (physicist) طبیعاتی سائنسدان۔عِلمُ الطبیعۃ: طبیعیات، طبیعاتی سائنس۔فلسفۃُ ماوراء الطبیعۃ یا فلسفۃُ مابعد الطبیعۃ: مابعد الطبیعیات۔الٰہیات: (metaphy-sics) فوق الطبیعۃ

• خارق عادت، مافوق الفطرت Supernatural

طَبائعُ الاشیاء: اشیاء کے خواص، معاملات کی

حالت طبیعی: نیچر کی، فطری، پیدائشی، جبلی، خلقی، اصلی، قدرتی، عام، مثالی، معیاری، نارمل، معمولی، مادی، جسمانی، زمین کا، ارضی، طبیعی، ماہر طبیعیات، طبیعی سائنسدان، تاریخ طبیعی کا ماہر، ماہر تاریخ موالید (naturalist) عَالِمٌ طبیعی: ماہر طبیعیات، طبیعی سائنسدان۔ الطبیعیات: طبیعیات، طبیعی سائنس۔

مَطْبَع: چھاپہ خانہ کا دفتر، چھاپہ خانہ، پریس۔ مَطْبَعَة جمع مَطَابِع: چھاپہ خانہ کا دفتر، چھاپہ خانہ، پریس۔ حُرِّيَةُ المطابع: پریس کی آزادی۔ مَطْبَعِی: چھاپہ کا، چھاپنے والے کا، طباعتی۔ خطاء مطبعی اور غَلْطَةَ مطبعیہ: طباعتی غلطی، طباعت کی غلطی، سہو کتابت (miprint) طباعت یا کتابت کی غلطی Erratum مَطْبَعْجِی: طابع (printer) مِطْبَعَة جمع مَطَابِعَ: چھاپہ مشین، پرنٹنگ پریس۔ طَابِع: چھاپنے والا printer طَابِع: ٹھپا، سرٹکٹ، نشان، نشانی، پہچان، امتیازی خصوصیت، جمع طَوَابِع: مہر، ٹکٹ، نقش، چھاپا، مصنوعہ حروف، طبع طباعت، اثر، تاثیر، چھاپ، ٹکیہ Tablet گولی (pill) طابع البرید اور طابع بریدی: ڈاک ٹکٹ۔ طابع تذکاری: یادگاری ٹکٹ۔ طابعُ الاصابع: انگلیوں کا نشان Fingerprint صاحب الطابع: مہر بردار۔ طَبَعَهُ بطابعه: کسی چیز یا شخص پر اپنی چھاپ، نشان چھوڑنا یا لگا یا رکھنا، کو اپنی خصوصیت دینا یا پہچانا۔

مَطْبُوع: چھپا ہوا، منقوش، یا طباعتی تختی کی صورت میں ڈھلا ہوا۔ جمع مطبوعات: مطبوعہ چیزیں، مطبوعات، مطبوعہ، مال، مواد یا شے۔ مَطْبُوعٌ بطابعه: کسی شخص یا چیز کی چھاپ نشان یا تاثیر کا حامل کی خصوصیت سے ممیز۔ مطبوع علی بمعنی مطبوع بطابعه نیز کی فطری خاصہ کا حامل، اس کی سی فطرت پر ہونے والا۔ مطبوعٌ دَوْرِی: اخبار، رسالہ جو مقررہ وقت پر شائع ہوتا ہے۔ periodical قانون المطبوعات: پریس لاء (press law)

طبق: ا۔ طَبِق۔ طَبَقاً و طَبَقَّات یدُهُ: ہاتھ کا بند ہونا، پہلو سے لگنا۔ یفعلُ الشی ءَ: کچھ کرنا شروع کرنا، کچھ کرنے لگنا۔ طَبَّقَ الشیءُ: چیز کا عام ہونا۔ السحابُ الجوَّ: بادل کا فضا کو ڈھک لینا۔ الماءُ وجهَ الارض: پانی کا زمین کی سطح کو ڈھانپ لینا۔ الفرسُ: گھوڑے کا دلکی چلنا۔ السیفُ المَفصِلَ: تلوار کا جوڑ پر لگ کر عضو کو جدا کر دینا کہتے ہیں۔ انه یطبِّقُ المفصلَ: وہ صحبت میں غالب ہے۔ الحاکمُ فی حکمه: حاکم کا درست فیصلہ کرنا، عصر حاضر کے ادباء کہتے ہیں طَبَّقَ فلاناً: اس نے فلاں شخص کو اپنی سیاسی رائے وغیرہ کی طرف جھکا لیا۔ طَابَقَ طِباقاً و مُطَابَقَةً المقیدُ: قیدی کا قریب قریب قدم رکھنا۔ الرجُلُ علی العمل: کا عادی ہونا۔ ہُ: کے موافق ہونا۔ بین الشیئین: دونوں کو ایک طریقہ پر کرنا۔ ہُ علی الامر: کی کسی معاملہ میں مدد کرنا۔ بالحق: حق کا یقین کرنا، اقرار کرنا۔ بین قمیصین: قمیصوں کو اوپر نیچے پہننا۔ الفرسُ فی جریه: گھوڑے کا چلنے میں پچھلے پاؤں کو اگلے پاؤں کی جگہ رکھنا۔ أَطْبَقَ الشی ءَ: کو ڈھانپنا۔ الرَّحی: چکی کے اوپر کے پاٹ کو نیچے کے پاٹ پر رکھنا۔ کہا جاتا ہے۔ اُطْبِق شفتیك: چپ رہو۔ الشی ءَ: کو ڈھکنا۔ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ت النجومُ: ستاروں کا کثرت سے ظاہر ہونا۔ الراکعُ: رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں کے درمیان رکھنا۔ ت الحُمّیٰ علیه: کسی پر بخار کا رات دن چڑھا رہنا۔ أَطْبَقُوا علی الامر: کسی امر پر متفق ہونا۔ تَطَبَّقَ وانْطَبَقَ الشی ءُ: چیز کا بند ہو جانا۔ تَطَابَقَ القومُ: قوم کا اتفاق کرنا۔ ما أَطْبَقَ فلاناً: وہ کتنا ہوشیار ہے۔ الطَّبُوق: پرندوں کو شکار کرنے کا لاسہ، دن کی ایک گھڑی، مطابق، کہا جاتا ہے۔ هذا طِبْقُ ذلك: یہ اس کے مطابق ہے۔ من الناس: لوگوں کی ایک جماعت۔ الطَّبَق: (مص) جمع أَطْباق: مطابق، پردہ، بڑی پلیٹ، طشتری، پیٹھ کے منکے، جماعت گروہ (کہا جاتا ہے۔ مضی طَبَقٌ بعد طبقٍ: لوگوں کی ایک نسل کے بعد ایک نسل گزر گئی۔ جاءَهُ طَبَقٌ من جراد: اس کے پاس ٹڈیوں کی ایک جماعت آئی)۔ حال (کہا جاتا ہے: الدهرُ أطباق: زمانہ کے مختلف حالات ہیں)، زمین کی سطح۔ من المطر: ہمہ گیر بارش، کہا جاتا ہے۔ مطرٌ طَبَقٌ و دیمةٌ طَبَقٌ: ہمہ گیر بارش اور مسلسل ہمہ گیر بارش۔ من اللیل و النهار: رات دن کا بڑا حصہ کہا جاتا ہے۔ اقمتُ عنده طبقاً من النهار: میں دن کے بڑے حصہ میں اس کے پاس رہا۔ اُمُّ طَبَق: مصیبت۔ بنات طَبَق: سانپ، (جمع) مصیبتیں، کچھوے۔ اطباق الرأس: سر کی ہڈیاں۔ الطَّبَق: بند۔ الطَّبَقَة: مرتبہ، طبقہ۔ الطبقة الاجتماعیة: مدنی الطبع طبقہ۔ طبقة العمال: مزدوروں کا طبقہ، کہا جاتا ہے۔ إنّ کُتُبَهُ الیّ طَبَقَةٌ: اس کے خطوط میرے پاس پے درپے آتے رہتے ہیں۔ من البنایة: منزل۔ الطَّبَقَة جمع طِبَق و طِبَقٌ: دن کی ایک گھڑی، جال، پھندا۔ الطِّبَاق مطابق کہا جاتا ہے۔ هذا طِباق ذاك: یہ اس کے مطابق و موافق ہے۔ طباقُ الارض: زمین کی سطح۔ الطَّابِق جمع طَوَابِق: منزل جیسے بنایة ذات طابق او طوابق: ایک یا متعدد منزلہ عمارت۔ الطِّبق جمع طُبُق: رات کی ایک گھڑی، مطابق، کہا جاتا ہے: هذا طَبِقُ ذاك: یہ اس کے مطابق اور موافق ہے۔ التطبیق عند المُحدّثین: ایک یا زائد شخصوں کو اپنا طرفدار بنانا۔ المُطْبَق: زمین دوز قید خانہ۔ الجنونُ المُطبِق: لگا تار جنون۔ سنةٌ مُطْبِقَةٌ: سخت سال۔ الحروف المُطبِقة: ص، ض، ط، ظ۔ المُطبِقات: مصائب۔ المُطبِّق: صائب الرای۔ سحابةٌ مُطْبِقَةٌ: ہمہ گیر بارش برسانے والا بادل۔ المُتَطَابِقة (ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ، خواہ اس کے حروف کی قیمت کچھ بھی ہو جیسے (ب + خ) = ب۲ + ۲ ب ج + ج۲ (س+۱)(س+۲) س۲+۳س+۲

۲۔ الطِّبْق: درخت کا پھل۔ الطَّابِق (ت): دیوالیہ تاجر کا اثاثہ۔ و الطابَق جمع طَوابق و اطوابیق: کڑھائی، فرائی پین۔ آدھی بکری۔ و الطاباق: شیشہ، بڑی اور پختہ اینٹ (فارسی لفظ) لُطُبّاق (ن): ایک قسم کا پودا۔

○ طَبَّقَ ہ: کو ڈھکنا، ڈھانپنا۔ بین: دو شکلوں کو منطبق کرنا یا ٹھیک بٹھانا (جومیٹری)۔ ہ: کوتہ کرنا۔ ہ: (ہاتھ) جوڑنا، باندھنا۔ ہ: (گھوڑے کو) نعل لگانا۔ ہ علی: کو پر منطبق کرنا، چسپاں کرنا، لاگو کرنا۔: عام ہونا، ہمہ گیر ہونا، عالمگیر ہونا، دور تک پھیلا ہوا ہونا۔ ہ: کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلانا، میں سرایت کرنا، رچ بس جانا۔ طَبَّقت شهرتُهُ الآفاقَ و طبق صیتُهُ الخافقین: مشہور زمانہ ہونا، دنیا بھر میں شہرت حاصل کرنا، کی شہرت کا دنیا بھر میں پھیل جانا۔ طابق بین ۔۔ و بین۔ کو سے منطبق کرنا، کو سے مربوط کرنا، کا سے مقابلہ کرنا، موازنہ کرنا۔ ہ: بدل کر مطابق بنانا، ہم آہنگ بنانا، موافق یا مطابق بنانا، حساب ملانا، کو کاٹ چھانٹ کر شکل دینا۔ ہ/ ہ: کی ضرورتوں کے لئے کافی ہونا، کے لئے موزوں ہونا، کو راس آنا، کو پھبنا، سجنا، اچھا لگنا، سے میل کھانا، سے ملتا جلتا ہونا، اپنے آپ کو کے موافق، ہم آہنگ بنانا۔ ۔ ہ: کا جوڑ یا کے برابر ہونا، سے اتفاق کرنا، متفق ہونا، کو ماننا، کی تعمیل کرنا، کے مطابق ہونا۔ أَطْبَقَ ہ: کو بند کرنا (جیسے آنکھیں منہ وغیرہ بند کرنا)۔ ہ/ علی: کو ڈھکنا۔ علی: کو گھیر لینا، کو گھیرے میں لے لینا، کا محاصرہ کرنا، کے گرد گھیرا ڈال لینا، کو حلقے میں لے لینا، کے گرد حلقہ ڈالنا، کو محصور کر لینا۔ علی: پر اتفاق کرنا۔

أطبق علی یدی اس نے میرا ہاتھ دبایا۔ تطبّق: ڈھک جانا یا بند ہو جانا۔ انطبق بمعنی نیز: انطبق علی پر لاگو، چسپاں یا منطبق ہونا۔ ــــ علی کی ضرورتوں کے لئے کافی ہونا، کے لئے موزوں ہونا، کو راس آنا، کو پھبنا، بجنا، اچھا لگنا۔ ــــ علی پر صادق آنا، کے مطابق، موافق یا ہم آہنگ ہونا، کے برابر ہونا، کا جوڑ ہونا۔ طِبق کے مطابق، کے مماثل، مساوی۔ طِبقاً لِ کے مطابق، کے مماثل۔ صورةٌ طِبق الاصل صحیح نقل، ہو بہو نقل (Exact replica , true copy) طَبَق جمع اطباق ڈھکنا، پلیٹ، ڈش، اتھلا پیالہ (گول) ٹرے، کشتی یا طشت (جن پر مشروبات و ماکولات وغیرہ رکھ کر پیش کئے جاتے ہیں) خاکستر دان جمع اطباق نیز طباق تہ، پرت، طبقہ، متوازی قطار جمع طباق ڈھیر، بڑی مقدار۔ أطباقٌ طائرۃ: اڑن طشتریاں۔ یدٌ طبقۃ بند ہاتھ۔ طبقۃ جمع طبقات زمین، ہوا، معاشرہ وغیرہ کا طبقہ، عمارت کی منزل (ہم مرتبہ لوگوں کا) طبقہ، قسم، زمرہ، درجہ، نسل، پود۔ الطبقة الطُخُروِیّة بالائی کرہ ہوائی، بالائی فضا (strato-sphere) الطبقات النجسة: ناپاک ذاتیں نجس ذاتیں۔ الطبقة المتوسطة: متوسط طبقہ۔ حربُ الطبقات طبقاتی کشمکش، علم طبقاتِ الارض ارضیات۔ معدود فی الطبقة الثالثة تیسرے درجہ کا سمجھا جانے والا۔ طابق جمع طوابق بڑی پختہ اینٹیں، منزل Floor, storey (عمارت کی) الطابق الارضی گراؤنڈ فلور۔ طاباق جمع طوابیق بڑی اور پختہ اینٹیں۔ تطبیق تصرف، تطابق، تطبیق، انضباط، ہم آہنگی، انطباق، لاگو ہونا، چسپاں ہونا۔ تطبیقی عملی، عملی مقاصد، مقاصد پورے کرنے والا۔ علوم تطبیقیة عملی علوم۔ طَباق و طُباق تمباکو۔

طبل ۱۔ طَبَلَ ۔ طَبلاً ڈھول بجانا۔ طَبَّلَ ڈھول بجانا۔ ــــ فی المشی عند العامة: چلنے میں تھک جانا، تھکا ماندہ ہو جانا۔ صحیح لفظ بَلَّطَ ہے۔ الطَّبل جمع طُبول و أطبال: (مو) ڈھول، یک طرفہ یا دو طرفہ۔ الطَّبلة: ڈھولکی۔ الطَّبَّال ڈھول والا، ڈھول بجانے والا۔ الطِّبالة: ڈھول بجانے کا پیشہ۔ الطَّبلِیَّة جمع طَبلِیّات چھوٹا گول میز۔

۲۔ الطَّبلِیّة جمع طَبلِیّات: پول ٹیکس۔

◌ طَبَّل ل: کے لئے ڈھول بجانا یعنی کسی کی مہم میں حصہ لینا، کا، کے لئے پروپیگنڈا کرنا۔ طَبلَةُ الأُذن: کان کا ڈھول، کان کی جھلی۔ طَبلة جمع طبلات و طبل قفل، تالا۔ طَبلی: ڈھول کی شکل کا۔ مُطَبَّل بھیگی ہوئی، سیم سیلی، مرطوب (زمین)۔ طَبلة جمع طبلات میز۔ طَبلِیّة جمع طبلیات و طبالی تپائی اور گول میز، انجن موڑنے والا چکر، ٹرے، چوبی کشتی یا طشت۔

طبن ۱۔ طَبَنَ ۔ طَبناً النارَ آگ کو دبا دینا تا کہ بجھ نہ جائے۔ طابَن الحَفیرةَ گڑھا گہرا کرنا۔ اطبأنّ اطبِئناناً بالمکان کسی جگہ میں اطمینان پانا۔ الطابُون گڑھا جس میں آگ محفوظ رکھی جاتی ہے۔

۲۔ طَبِنَ ۔ طَبَناً و طَبَنَ ۔ طَبناً و طَبانةً و طَبانِیَةً و طُبونةً الشیءَ و للشیء میں ماہر ہونا، ہوشیار ہونا، صفت طَبِن و طابِن طابَنَهُ کے موافق ہونا۔ الطِّبنة جمع طِبن زیرکی، ہوشیاری۔

۳۔ الطُّبن جمع طُبن مردار جو گدھوں اور درندوں کا شکار کرنے کے لئے بطور چارہ کام میں لایا جائے، عربوں کا ایک کھیل۔ و الطُّبن: بڑی بھیڑ کہا جاتا ہے۔ أیُّ الطُّبن هو وہ کون آدمی ہے؟ الطُّبن (مو) بانسری، ستارہ، سارنگی۔ و ــــ الطُّبن مردار جس کو گدھوں اور درندوں کے لئے چارہ بنایا جائے، عربوں کا ایک کھیل۔ ــــ و الطِّبن گھر، ہوا کا لایا ہوا کوڑا کرکٹ اور جلانے کی لکڑیاں وغیرہ۔ جمع طُبن مردار جسے گدھوں اور درندوں کے شکار کے لئے چارا بنایا جائے، عربوں کا ایک کھیل۔ الطُّبنة جمع طُبن بانسری کی آواز، ایک کھیل۔

۴۔ الطَّبَنجة جمع طبنجات طمنچہ (ترکی لفظ)

◌ طَبِنَ ۔ طَبَناً ہوشیار ہونا، ذہین ہونا، سمجھدار ہونا۔ طَبِن: ہوشیار، ذہین، سمجھدار۔ طابُونة (طبونة) جمع طابونات ایک چھوٹا، مرتبان کی شکل کا زمین میں گاڑا ہوا تنور، بیکری۔ طبان جمع طبانات: (پہیے کا) ٹائر۔ طَبنجة جمع طبنجات: پستول

طبا: طَبا ۔ طَبواً واطّبی اطِّباءً هُ: کو پکارنا، بلانا۔

طبی: ۱۔ طَبی ۔ طَبیاً هُ: کو آگے سے کھینچنا۔ ــــ هُ الیه کو اپنے پاس بلانا۔ ــــ هُ عنه کو اپنے سے دور کرنا۔ أطبی اطباءً هُ کو بلانا، پکارنا۔

۲۔ طَبِیَ تَطبی طَبیً ت الناقةُ: اونٹنی کا ڈھیلے تھنوں والی ہونا۔ الطِّبی و الطُّبی (ع ا) الأطباء کا واحد، درندے، یا سم دار یا کھر دار، جانور کا پستان۔ الطَّبواء و الطُّبیة من النوق ڈھیلے تھنوں والی اونٹنی۔

طث: طَثَّ ۔ طَثّاً الشیءَ: کو ہاتھ یا پاؤں سے مار کر اسکی جگہ سے ہٹانا۔ الطَّثّ (مص) بچوں کا ایک کھیل جس میں گول لکڑی کو پھینکتے ہیں، اس گول لکڑی کو مِطَثّة کہتے ہیں۔

طثر: طَثَرَ ۔ طُثراً و طُثوراً و طثر اللبنُ: دودھ کا بالائی والا ہونا۔ صفت طاثِر۔ أطثر الشیءَ کو زیادہ کرنا۔ الطَّثرة: بالائی، کیچڑ، کائی، غلیظ پانی، وسعتِ عیش، بھیڑ کی اون۔

طجن: طَجَنَ ۔ طَجناً و طَجَّنَ الشیءَ: کو بھوننا۔ الطّاجن و الطَّیجن جمع طَیاجن و طَواجن کڑاہی (یونانی لفظ) المُطَجَّن (ط) کڑاہی میں بھنا ہوا۔

◌ طاجن جمع طَواجن فرائی پان، مٹی کا اتھلا برتن۔

طح: ۱۔ طَحَّ ۔ طَحّاً هُ کو پھیلانا۔ انطحّ پھیلنا۔ الطُّحُح کھر چنیں۔ الطَّحان پھیلی ہوئی زمین۔

۲۔ اطّحّ هُ کو گرانا، پھینکنا۔

۳۔ طَحطَحَ هُ: کو توڑنا۔ ــــ القومَ و بالقوم قوم کو متفرق کرنا، ہلاک کرنا۔ ــــ مالَه مال کو بکھیرنا۔ الرجلُ ہلکی ہنسی ہنسنا۔ تَطَحطَحَ: ٹوٹنا، بکھرنا۔

طحر: ۱۔ طَحَرَ ۔ طَحَرَت العینُ قذاها: آنکھ کا خس و خاک کو نکال پھینکنا صفت طَحُور۔ طَحَرَت الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو اڑا لے جانا۔ الطَّحر والطَّحَر: پتلا متفرق بادل۔ ــــ الطَّحرة و الطِّحریة: بادل کا ٹکڑا۔ الطَّحور جلد باز۔ ــــ و المِطحَر من القِسِیّ: تیر دور پھینکنے والی کمان۔ الطُّحرُور جمع طَحاریر بادل کا ٹکڑا۔ الطَّحاریر بادل کے ٹکڑے۔

۲۔ طَحَرَ ۔ طَحراً و طَحیراً و طُحاراً: ٹھنڈی سانس لینا۔ آہ نکالنا۔ الطُّحار آہ۔

۳۔ طَحرَبَ: دوڑ کے بھاگ نکلنا۔ القِربةَ مشک بھرنا۔ الطِّحرِب: کوڑا کرکٹ۔ الطِّحربة بادل یا کپڑے کا ٹکڑا۔ (طاء و راء پر تینوں اعراب کے ساتھ)

طحل: ۱۔ طَحَلَ ۔ طَحلاً هُ: کی تلی پر مارنا۔ طَحِلَ ۔ طَحلاً و طَحَلاً: کی تلی کا بڑھ جانا۔ طُحِلَ طَحلاً: تلی کی شکایت ہونا۔ صفت مَطحُول۔ الطِّحال جمع أطحِلة و طُحُل و طِحالات (ج ا) تلی۔ الطُّحال (طب) تلی کی بیماری۔ الطِّحِل: بڑی تلی والا۔

۲۔ طَحَلَ ۔ طَحلاً الاناءَ: برتن کو بھر دینا۔ الطَّحِل بھرا ہوا۔ غضبناک۔

۳۔ طَحِلَ ۔ طَحَلاً و طَحَلَ الماءُ: پانی کا خراب ہو جانا۔ الطَّحِل: کائی والا پانی۔

۴۔ الطُّحَل عند العامة باریک تنکے وغیرہ۔ فصیح الحَثا ہے۔ الطُّحلة خاکستری رنگ۔ الأطحَل م طَحلاء جمع طُحل خاکستری رنگ کا۔

۵۔ طَحلَبَ الماءُ: پانی کا کائی والا ہونا۔ صفت مُطَحلِب

و مُطْحَلِب ۔ ت الارضُ: زمین کا سرسبز ہونا۔ الطُحْلَب و الطَحْلَب و الطِحْلِب (ن): کائی۔ الطِحْلِبَة کہا جاتا ہے۔ مَا عَلَيْهِ طِحْلِبَة: اس پر کوئی بال نہیں۔

۲۔ طَحْلَبَ الرجلَ: کو قتل کر ڈالنا۔

طُحُل و طَحْل: تلچھٹ، درد، گار۔ طِحال جمع طِحالات و طُحُل: تلی۔ طُحال: ورم طحال، تلی کا ورم۔ مَطْحُول: بیمار تلی والا، تلی کا مریض۔ طُحْلُب: اسم جنس واحد طُحْلُبَة جمع طَحالِب: کائی۔

طَحَمَ ۔ طَحْمَةً عليه: پر کودنا، حملہ کرنا، (عوام کے کلام سے متعلق ہے قحم کی تحریف بھی ہو سکتا ہے۔ الطُحْمَة و الطَحْمَة و الطِحْمَة من الناس: لوگوں کی جماعت۔ من السيل: سیلاب کا زور۔ من الليل: رات کی بہت تاریکی۔ الطُحْمَة: سخت جنگجو، بہت سے اونٹ۔ الطَحُوم: تیز بہنے والا دریا۔ المَطْحُوم: بھرا ہوا۔

طحن ۱۔ طَحَنَ ۔ طَحْنًا و طَحَّنَ البُرَّ: گیہوں پیسنا۔ المنيةُ القومَ: موت کا لوگوں کو ہلاک کرنا۔ تَطَحَّنَ: پسنا۔ الطِحْن و الطَحِين: آٹا۔ الطَاحِنَة جمع طَوَاحِن: طَاحِن کا مونث۔ داڑھ۔ الطَحَّان: آٹا پیسنے والا، آٹا بیچنے والا۔ الطِحَانَة: آٹا پیسنے کا پیشہ۔ الطَاحُون و الطَاحُونَة جمع طَوَاحِين: چکی، پیسنے کی جگہ۔ الطَحُون و الطَحَّانَة: جنگ، بڑا لشکر، بہت سے اونٹ۔ المِطْحَنَة جمع مَطَاحِن: چکی، خواہ پانی سے چلتی ہو یا ہوا سے یا سٹیم سے۔ المَطْحَنَة جمع مَطَاحِن: پیسنے کی جگہ۔

۲۔ طَحَنَ ۔ طَحْنَاتِ الافعی: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ صفت مِطحان۔

طَحَنَ ۔ طَحْنًا ہ / ۂ: کو کچل ڈالنا، تباہ کر دینا، برباد کر دینا۔ ہ: کو تھکا دینا (عمر یا سالوں کا) کی جان لینا۔ تطَاحَنَ: ایک دوسرے سے لڑنا، جھگڑنا، تو تو میں میں کرنا، مخالف یا معاند ہونا، ایک دوسرے سے متصادم ہونا، باہم گر آویزاں ہونا، اختلاف رائے رکھنا۔ طحن و طَحِين: آٹا، موٹا آٹا۔ طَحِينی: آٹے کا سا، خشک سا، آٹے دار۔ طَحِينِيَة: تل، آٹے اور چینی سے بنی ہوئی ایک مٹھائی۔ طَحِينَة: تلوں کے تیل سے بنی ہوئی گاڑھی چٹنی، سلاد اور سبزیوں کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ طَاحُونَةُ الهوا: ہوا چکی۔ مِطْحَنَة جمع مَطَاحِن: چکی، گرائنڈر۔ مَطْحَنَة جمع مَطَاحِن: آٹا مل۔ طَاحِن: ڈاڑھ، گرائنڈر۔ طَاحِنَة: داڑھ، گرائنڈر۔

طحا: ۱۔ طَحَا ۔ طُحُوًا: دور ہونا، ہلاک ہونا۔ ۔ الشیءَ: کو ہٹانا۔ ۔ بالکُرَة: گیند پھینکنا۔ ۔ القومُ: ایک دوسرے کو ہٹانا۔ ۔ الرجُلُ: ملک میں سفر کرنا، کہتے ہیں۔ طحابه همُّهُ: غموں نے اسے بے چین کر دیا۔

۲۔ طَحَا ۔ طَحْوًا: لیٹ جانا۔ الشیءَ: کو پھیلا دینا، لمبا کرنا۔ الشیءُ: پھیل جانا، لمبا ہونا۔ ۔ بفلانٍ شَحْمُهُ: فربہ ہونا۔ الطَحَا: چپٹی زمین۔ الطَاحِی (فا): پھیلا ہوا، بڑی بھیڑ۔ مَظَلَّة طَاحِيَة و مَطْحُوَّة و مَطْحِيَّة: چھتر، بڑی چھتری، سائبان، شامیانہ۔ بقلةٌ مُطَحِّيَةٌ: دور تک پھیلا ہوا گھاس پھوس، سبزہ زار۔

۳۔ طَحَا ۔ طَحْوًا القمرُ: چاند کا روشن ہونا۔ الطَاحِی (فا): بلند۔

طحی: طَحَی ۔ طَحْيًا الشیءَ: کو پھیلانا۔ ۔ الرجُلُ: لیٹنا۔ الطَحْيَة: بادل کا ٹکڑا۔

طخ: طَخَّ ۔ طَخًّا: ترش رو اور بد خلق ہونا۔ ۔ الشیءَ: کو پھینکنا، دور کرنا۔ المِطَخَّة: بچوں کے کھیل کی لکڑی۔

۲۔ طَخْطَخَ الشیءَ: کو برابر کرنا، کو ایک دوسرے سے ملانا۔ ۔ اللیلُ: رات کا تاریک کرنا۔ تَطَخْطَخَ السحَابُ: بادل کا باہم مل کر برابر ہونا۔ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الطَخْطَاخ: گھرا ہوا بادل۔ الطُخَاطِخ: تاریکی۔

۳۔ الطَخْطاخ: بدخلق

طخش: طَخِش ۔ طَخْشًا و طَخَشَاتِ العينُ: آنکھ کا بے نور ہونا۔

الطَبَقَة الطُخْرُورِيَة: بالائی کرہ ہوا، بالائی فضا۔

طخم: طَخَمَ ۔ طَخْمًا و طَخُمَ ۔ طَخَامَةً: تکبر کرنا۔ اِطْخَمَّ اللحمُ: گوشت کا خشک ہو کر سیاہی مائل ہو جانا۔ الطُخْمَة: بکریوں کا گلہ۔ الطُخْمَة: ناک کی چوٹی کی سیاہی۔ الأَطْخَم: جانور یا آدمی کے ناک کا اگلا حصہ۔ و الطَخِيم: خشک گوشت۔

طخا ۱۔ طَخَا ۔ طَخْوًا و طُخُوًّا اللیلُ: رات کا تاریک ہو جانا۔ الطَخَاء: بلند بادل، دل کی گھبراہٹ۔ الطُخْيَة و الطَخْيَة و الطِخْيَة: تاریکی، بادل کا ٹکڑا۔ الطَخْوَاء و الطَخْيَاء من اللیالی: تاریک رات۔ الطَاخِيَة: سخت اندھیرا۔

۲۔ الطَخْيَة جمع طَخْيُون: بے وقوف۔

طرّ ۱۔ طَرَّ ۔ طَرًّا الماشية: جانوروں کو زور سے ہانکنا۔ ۔ الابلَ: اونٹوں کو اطراف سے جمع کرنا۔ ۔ فلانًا: کو نکال دینا، کو تھپڑ مارنا۔ أَطَرَّهُ: کو دھتکار دینا۔ ۂ على الامرِ: کو کسی کام پر ابھارنا، اکسانا۔

۲۔ طَرَّ ۔ طَرًّا القومَ: لوگوں کے پاس سے گزرنا۔ طَرًّا کہتے ہیں ۔۔۔ وہ سب کے سب آئے

(حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے)

۳۔ طَرَّ ۔ طَرًّا السكينَ: چھری تیز کرنا۔ ۔ البنيانَ: عمارت کی مرمت کرنا۔ الحوضَ: حوض کو لیپنا۔ سنانٌ طَرِير: تیز نیزہ۔

۴۔ طَرَّ ۔ طَرًّا الشیءَ: کو کاٹنا۔ ۔ الثوبَ: کپڑا پھاڑنا۔ ت الابلُ الجبالَ: اونٹوں کا پہاڑ کو طے کرنا۔ ۔ المالَ: مال چھین لینا۔ اسی سے ہے طَرَّ عَقْلَهُ: اس نے اسکی عقل چھین لی۔ طَرَّرَتِ الجاريةُ: لڑکی کا اپنے پیشانی کے بال سنوارنا۔ اَطَرَّهُ: کو کاٹنا۔ الطُرُّ جمع أَطْرَار: طرف، کنارہ کہا جاتا ہے: هو يحمى أَطْرَارَ البلاد: وہ ملک کے اطراف کا دفاع کرتا ہے۔ الطُرَّة جمع طُرَّات و طُرَر و طِرَار و أَطْرَار: پیشانی کے بال۔ پیشانی، کپڑے کا نقش و نگار، ہر چیز کا کنارہ اور طرف، کتاب کا حاشیہ، نہر یا وادی کا کنارہ، بادل کا لمبا ٹکڑا۔ الطَرَّار: جیب تراش، جیب کترا۔

۵۔ طَرَّ ۔ طَرًّا و طُرُورًا ت يدُه: کے ہاتھ کا گر جانا۔ ۔ الرجُلُ من السطح: چھت سے گر جانا۔ اَطَرَّهُ: کو گرا دینا۔

۶۔ طَرَّ ۔ طَرًّا و طُرُورًا الشاربُ او النباتُ: مونچھ یا پودے کا اگنا۔ ت النجومُ: ستاروں کا روشن ہونا۔ الطَرَّة: طَرَّ کا اسم مرہ۔ غلامٌ طارٌّ او طَرِيرٌ: لڑکا جس کی مونچھیں نکل آئی ہوں۔

۷۔ الطَرَّة: کولہا۔ الطُرَّة: طُغرا (صحیح لفظ طُغراء ہے) الطِرِّيان: طباق، سینی۔ غضبٌ مُطِرٌّ: بے موقعہ کا غصہ، بے محل کا غصہ۔ المُطَرَّة: عادت۔

طَرَّ ۔ طَرًّا و طرورًا ہ: کو تیز کرنا، سان پر لگانا۔ طَرَّ (مونچھوں، بالوں کا) اُگنا۔ طُرًّا: سب ملا کر، کل بحیثیت مجموعی، سب کے سب بلا استثناء۔ طُرَّة جمع طُرَر: پیشانی کے بال، گانٹھوں والا کپڑا یا رومال (سر پر باندھنے کا) طَرَّار جمع طَرَّارة: طنبور یا دف بجانے والا، ٹھگ، دھوکے باز، بدذات۔

طرأ ۱۔ طَرَأَ ۔ طَرْءًا و طُرُوءًا عليهم: دور سے اور اچانک کسی کے پاس آ جانا۔ کہا جاتا ہے: طَرَأَ علَیَّ هم لا اطيقه: اچانک مجھے ایسے غم نے آ لیا جو نا قابل برداشت ہے۔ الطَارِئُ (فا) جمع طُرَّاء و طُرَاء: اجنبی، غیر حقیقی نقلی۔ الطَارِئَة جمع طَوَارِئ و طَارِئَات: الطاری کا مونث۔ مصیبت، وہ لوگ جو کسی شہر میں رہتے ہوں مگر ملک کے باشندے نہ ہوں۔ غیر ملکی لوگوں کی بستی۔ الطُرْآن: ناپسندیدہ غیر معلوم بات۔ کہتے ہیں۔ حمام طُرْآنی: کبوتر جس کے متعلق پتہ نہ کہ کہاں سے آیا ہے۔ کلام طرانی تہذیب سے گرا

ہوا کلام۔

۲- طَرُوَ - طَرَاءَۃً و طِرَاءَ النباتُ و نحوہ: نباتات کا تروتازہ ہونا صفت طَرِیٌ

۳- أطراہُ: کی بہت تعریف کرنا۔

۴- الطُرآن: راستہ۔ طُرَاۃُ السیل: سیلاب کا ریلا۔

○ طَرَأَ - طَرأً و طُرُوءًا علی: پر اچانک آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، کو اچانک آلینا، پر واقع ہونا، پڑنا، کو پیش آنا۔ علی / ل: کو کا خیال آنا۔ طَرَأَتْ علیہ فِکْرَۃٌ: اسے ایک خیال سوجھا۔ لم یطرأ علی الحالۃ تَبَدُّلٌ یُذْکَر: صورت حال میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی یعنی صورت حال تقریباً پوری طرح جوں کی توں رہی۔ أَطْرَأَہ: کی تعریف کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا۔ طَرِیٌ: تروتازہ، نیا۔ طَارِیٌ: اجنبی، غیر متعلق، بیرونی، خارجی، غیر معمولی، اتفاقی، ناگہانی، غیر ارادی، نامتوقع، ہنگامی، غیر متوقع، اچانک آنے والی تبدیلی، یا نیا عنصر، غیر متوقع ملاقاتی، اچانک ہلچل، جوش، تحریک، لہر، ترنگ۔ طَارِئَۃ جمع طَوَارِئ: غیر متوقع واقعہ، حالات، اتفاق، نیا عنصر یا پیش رفت، واقعہ، حادثہ۔ حالۃُ الطوارئ: ہنگامی حالت۔ طُرآنی: غیر معروف اصل کا، جنگلی۔ طَرابُلُس: طرابلس الشام: لبنان کا طرابلس۔ طرابلس الغرب: لیبیا کا طرابلس

طرب: ۱- طَرِبَ - طَرَبًا: خوشی یا غم سے جھومنا صفت طَرِبٌ - طَرَّبَ: گانا۔ ــ ہٗ: کو خوشی پر برانگیختہ کرنا۔ فی صوتہ: خوش الحانی سے آواز بلند کرنا، سر نکالنا۔ أَطْرَبَ و تطرّبَ ہٗ: کو خوشی پر برانگیختہ کرنا۔ استَطْرَبَ: بہت خوش ہونا۔ فلانًا: اسے خوش ہونے کو کہنا۔ الابلَ: حدی سے اونٹوں کو اُکسانا۔ الطَروب و المِطْرَاب و المِطْرابۃ: بہت خوش و خرم۔ المُطرِب: گانے والا، گویا، گلوکار، نغمہ گر، موسیقار۔

۲- طَرَّبَ عن الطریق: راستہ سے ہٹنا۔ المَطْرَب و المَطْرَبۃ جمع مَطارب: تنگ راستہ۔ المَطارِب: متفرق راستے۔

۳- الطِرْبال جمع طَرَابیل: ہر بلند عمارت دور سے نظر آنے والا جھنڈا۔ پہاڑ کی بڑی چٹان۔ طَرَابیلُ الشام: شام کے گرجے۔ الطِرْبیل جمع طَرَابیل: کاٹنے کی مشین۔

۴- الطَرْبُون: تروتازہ شاخ / ٹہنی (سریانی لفظ)

○ طَرِبَ - طَرَبًا: خوشی یا غم سے جھولنا یا ہلنے لگنا، خوش ہونا، مسرور یا محظوظ ہونا، بہت خوش ہونا، خوشی میں پھولے نہ سمانا۔ طَرَّبَ ہٗ: کو خوش کرنا، مسرور یا محظوظ کرنا، وجد میں لانا، پر کیفیت طاری کرنا، کو پسند آنا، کی تسکین کرنا، ــ: گانا، گیت گانا، گنگنانا۔ أَطْرَبَ ہٗ: کو خوش کرنا، خوشی سے بھر دینا، وجد میں لانا، پر کیفیت طاری کرنا، کو پسند آنا، کی تسکین کرنا، ــ: گانا، گیت گانا، ــ ہٗ: کے لئے نغمہ یا گیت گانا۔ الطَرَب: جمع أَطْرَاب: خوشی، سرور، بے حد خوشی، وجد، تفریح، کھیل، موسیقی وغیرہ کے ذریعہ تفریح۔ آلۃ الطرب: موسیقی کا آلہ۔ طَرِب جمع طِراب: خوشی یا غم سے جھومنے یا ہلنے والا، متاثر، خوش، وجد میں آیا ہوا، جس پر کیفیت طاری ہو، مسحور، سحر زدہ۔ طَروب: خوش، زندہ، دل، ہنس مکھ، خوش و خرم، شاداں و فرحاں، بشاش، شگفتہ مزاج۔ أَطْرَب: زیادہ خوش، اچھی موسیقی پیدا کرنے والا، بہتر موسیقار، زیادہ سریلا۔ اِطْرَاب: خوشی، مسرت، حظ، لطف، مزا، تفریح۔ مُطْرِب: مسرت بخش، راحت بخش، وجد آفرین، دل خوش کن پسندیدہ، مرغوب، مطبوع، دلچسپ، سریلا، موسیقار۔ گلوکار، گانے والا، گویا۔ مُغَنّیَ۔ مُطْرِبۃ: گانے والی، مغنیہ۔ طَرْبِیزَۃ: میز۔ طَربوش: ترکی ٹوپی جمع طرابیش، طرابیشی: ترکی ٹوپیوں کا تاجر، سوداگر۔ مُطَرْبَش: ترکی ٹوپی پہننے والا۔ مُتَطَرْبِش: ترکی ٹوپی پہننے والا، سفید کالر طبقہ کارکن، تعلیم یافتہ (متوسط طبقہ کا۔)

طرح ۱- طَرَحَ - طَرْحًا الشیءَ و بالشیءِ: چیز کو پھینکنا یا پھینک دینا۔ ــ ہٗ عنہ: کو سے دور کر دینا کہا جاتا ہے: طَرَحَت النویٰ بفلان کُلَّ مطرح: فاصلہ نے فلاں شخص کو دور کر دیا۔ طَرَحَتْہُ النوی مَطارِحَہا: سفروں نے اسے ادھر ادھر موڑا۔ الثوبَ علیہ: پر کپڑا ڈالنا یا رکھنا۔ ــ ت الأنثیٰ: عورت کا حمل گرانا۔ الحاسبُ: حساب کرنے والے کا کسی عدد کو اس سے بڑے عدد سے تفریق کرنا۔ طَرَّحَ: طرح کا مبالغہ کہا جاتا ہے۔ طَرَّحَ الشیءَ: چیز کو پھینکنا، پھینک دینا۔ ــ بہ السفرُ الی ناحیۃ کذا: سفر کا کسی کو کسی علاقہ میں جا پھینکنا، پٹخنا۔ الانثیٰ: عورت کا حمل گروانا۔ اِطَّرَحَ ہٗ: کو پھینک دینا، دور کر دینا۔ الطِرح: ڈالا ہوا، پھینکا ہوا، ادھورا گرا ہوا بچہ۔ الطَرَح: (مص) و الطَراح و الطَرُوح: دور کی جگہ۔ الطَرْحَۃ: اسم مرۃ، ایک بار پھینکنا، ایک سبز رنگ کی چادر۔ عند العامۃ: اوڑھنی۔ الطُرَّح: ڈالا ہوا، پھینکا ہوا۔ الطَرَّاحَۃ: گدا (عام زبان میں) الطَرِیح جمع طَرْحیٰ: ڈالا ہوا، پھینکا ہوا۔ المَطْرَح جمع مَطارِح: پھینکنے کی جگہ، بچھانے کی جگہ، کہا جاتا ہے: ما طَرَحَکَ ہذا المَطْرَح: جس حالت میں تو ہے اس میں تجھے کس چیز نے پھینکا۔ طَرْفٌ مِطْرَحٌ: تیز نظر۔ المُطَّرَح (مفعول) قولٌ مُطَّرَح: ناقابل التفات بات، قول۔

۲- طَرَحَ - طَرْحًا علیہ مسألۃً: کے سامنے مسئلہ پیش کرنا۔ طَارَحَ مُطَارَحَۃً ہٗ الکلامَ او الشِعْرَ او الغناءَ: سے کلام یا شعر یا گانے میں مقابلہ کرنا۔ تَطَارَحَ القومُ الکلامَ او الغناءَ: کلام یا گانے میں باہم مقابلہ کرنا۔ الأُطْرُوحَۃ: پیش کیا ہوا مسئلہ، مقالہ (The sis)

۳- طَرِحَ - طَرَحًا: خوش عیش ہونا، فراخ زندگی گزارنا۔

۴- طَرِحَ - طَرَحًا: بد خلق ہونا۔

۵- طَرَّحَ البناءَ: عمارت کو بہت بلند کرنا۔ الطَرُوح جمع طُرُوح: لمبی شاخوں کا درخت خرما۔ رمحٌ مِطْرَحٌ: لمبا نیزہ۔

○ طَرَحَ - طَرْحًا ہ / ب علی: کو پر پھینکنا، ڈالنا، پٹکنا، پٹخنا، اچھالنا۔ ہ / ب: کو پھینکنا، ڈالنا، پٹکنا، پٹخنا، ترک کرنا، کوڑی پر ڈالنا۔ ــ ہ / ہ او ب: کو ہٹانا، ہانک کر لے جانا، لے جانا، نکالنا، نکال باہر کرنا، خارج کرنا، اپنا کہنے سے انکار کرنا، ماننے یا پہچاننے سے انکار کر دینا، سے بے تعلقی ظاہر کرنا، کو مسترد کرنا، سے دستبردار ہونا، سے قطع تعلق کرنا، کی تردید کرنا۔ ہ علی: (کپڑے) کو پر پھینکنا یا ڈالنا، کو کچھ پیش کرنا، کو کوئی دھن یا طرز سکھانا۔ ہ ل: کو کچھ حوالہ کرنا، ــ: کا بچہ ضائع ہونا، کو اسقاط ہو جانا۔ ہ من: کی سے تفریق کرنا، کو سے منفی کرنا، کو سے گھٹانا، کو سے نکالنا، کو سے کم کرنا، کو سے مجرا کرنا۔ طرحہ فی المناقصۃ العامۃ: کے لئے ٹینڈر طلب کرنا، بولی طلب کرنا۔ طرح علیہ سوالا: پر سوال کرنا طرح۔ مسألۃ علی بساط البحث: غور کے لئے سوال پر بحث چھیڑنا، سوال اٹھانا، بحث و غور کے لئے کوئی مسئلہ پیش کرنا۔ طَرَّحَ (ہا): عورت سے اسقاط حمل کرانا۔ طَرَّحَ ہ اطراحًا: کو دور پھینکنا، کو دور پٹکنا یا پٹخنا۔ طَارَحَ ہ ہ: سے کچھ بدلنا، سے کسی چیز کی ادلا بدلی کرنا۔ طَارَحَہُ الکلامَ: سے باتیں کرنا، بات چیت کرنا۔ طارحہ الحدیثَ: سے گپ شپ لڑانا، سے بے تکلفی کی باتیں کرنا، سے گفتگو کرنا۔ طارحہ الاسئلۃَ: کے ساتھ سوالات کا تبادلہ کرنا۔ تَطَرَّحَ: زمین پر گرنا، گر جانا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا۔ تطارَحَ ہ: ایک دوسرے سے یا باہم خیالات کا تبادلہ کرنا۔ اِنْطَرَحَ: پٹکا جانا، پٹخا جانا، اچھالا جانا، پھینکا جانا، مسترد کیا جانا، نکالا جانا، سے قطع تعلق کیا جانا، تردید کیا جانا، اپنے آپ کو نیچے گرانا۔ علی الارض: اپنے آپ کو زمین پر منہ کے بل گرا

دینا۔— نیچے پھینکا جانا، ڈالا جانا۔ اِطَّرَحَ (ہ) کو دور پھینکنا، پٹکنا، پٹخنا، مسترد کرنا۔ طَرح اخراج، استرداد، نامنظوری، دیس نکالا، جلا وطنی، اسقاط حمل، تفریق، منہائی، کٹوتی مجرائی، کم کرنا۔ طرح البحر: سیلابی تہ نشین مادہ، دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی، ریت وغیرہ۔ طِرح: اسقاط شدہ بچہ۔ طُرحَۃ جمع طُرَح: اوڑھنی۔ طریح: گرایا ہوا، ڈالا ہوا، پھینکا ہوا، زمین پر پھینکا ہوا یا گرایا ہوا، منہ کے بل پڑا ہوا، نکالا ہوا، جلاوطن کیا ہوا، مسترد، جسے کسی نے نہ اپنایا ہو، تردید شدہ۔ طریح الفراش: صاحب فراش۔ طَریحۃ: دیا ہوا کام، سونپا ہوا کام، مفوضہ کام۔ شغل بالطریحۃ: ٹھیکے کا کام، پھٹکل کام، متفرق کام۔ طَراحَۃ جمع طَرائح: گدا، گھٹنے ٹیکنے کا گدا۔ اُطروحۃ: حاصل مطالعہ (Dissertation) مقالہ (thesis) مَطْرح جمع مَطارح: جگہ جہاں کوئی چیز پھینکی جائے یا بیکار سمجھ کر پھینکی جائے۔ گندگی یا غلاظت کا ڈھیر، جگہ، موقع محل وقوع، علاقہ، مقام، جگہ، حاضرین کا مقام۔ مَطروح: نیچے پھینکا ہوا، ڈالا ہوا، بے کار سمجھ کر پھینکا ہوا، زمین پر پڑا ہوا، منہ کے بل گرا ہوا، تفریق کیا ہوا۔

طرخ: ۱۔ الطُرحان و الطُرخان جمع طَراخِنَۃ: رئیس، سردار (خراسانی لفظ) الطَریخ (ح) ایک قسم کی چھوٹی مچھلی۔ الطَرخون (ن): عاقر قرحا۔

۲۔ اِطْرَخَمَّ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الرجلُ: کمزور نظر ہونا۔

طرد: ۱۔ طَرَدَ ۔ طَرْدًا و طَرَدًا ہ: کو دور کرنا، ایک طرف کرنا، دھتکارنا۔ ۔۔ ہ من بلادہ: کو جلاوطن کرنا۔ طَرِدَ ۔ طَرَدًا: کھوج لگا کر شکار کا پیچھا کرنا۔ طَرَّدَہٗ عن البلد: کو جلاوطن کرنا، خارج البلد کرنا۔ طَارَدَ طرادًا مُطارَدَۃً الاقرانُ: ہم عصروں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: ھم فرسان الطِراد: وہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اَطْرَدَہٗ: کو جلاوطن کرنے کا حکم دینا، جلاوطن کرنا۔ تَطارَدَ القومُ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اِطَّرَدَ: دور ہونا۔ اِنْطَرَدَ: جلاوطن ہونا (لیکن یہ اچھی لغت نہیں)۔ اِسْتَطْرَدَ لہ: چال کے طور پر کسی کو ظاہر کرنا جیسے وہ شکست خوردہ ہے۔ الطِراد: (مص) چھوٹا نیزہ۔ الطَرّاد: طارد کا مبالغہ، تیز رفتار جنگی جہاز۔ الطَرید: دھتکارا ہوا، بھاگنے والا۔ الطَریدَۃ جمع طَرائِد: کھوج لگایا ہوا شکار، چرائے ہوئے اونٹ، کپڑے کا بھیگا ہوا ٹکڑا جو تنور میں روٹیاں لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ المِطْرَد جمع مَطارِد: چھوٹا نیزہ۔ المَطْرَدَۃ: جو چیز پیچھا تعاقب کرنے کی دعوت دے۔

۲۔ طَرَدَ ۔ طُرُدًا و طَرَدًا الابلَ: اونٹوں کو ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے ہانکنا۔ طَرَدًا السوطَ: چابک اٹھانا۔ اِطَّرَدَتِ الانہارُ: نہروں کا جاری ہونا۔ ۔۔ الامرُ: کام کا درست طرز پر چلنا، احکام کا مماثل ہونا، معاملہ کا صحیح راستہ پر چلنا۔ القومُ فی المسیر: لوگوں کا سفر میں ایک دوسرے کی پیروی کرنا۔ اِسْتَطْرَدَ: سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا، گفتگو جاری رکھنا، کہنے لگنا، ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہونا۔ الیہ الامرُ: تک معاملہ پہنچنا۔ الطَرد وہ پانی جس میں جانور گھستے ہوں۔ الطِراد: کہا جاتا ہے: فلانٌ یمشی مشیًا طِرادًا: فلاں شخص سیدھا چلتا ہے۔ الطَرّاد وسیع جگہ، کشادہ جگہ، طویل دن، لمبا دن۔ الطَرید: کسی کے بعد یا پہلے پیدا ہونے والا۔ من الایام: لمبا دن۔ الطَریدان: رات اور دن۔ حُکمٌ مُطَّرِد: عام حکم جس میں کوئی استثناء نہ ہو۔ القاعِدۃ المُطَّرِدَۃ عام قاعدہ جس میں استثناء نہ ہو۔ یوم مُطَّرِدٌ: لمبا طویل۔

۳۔ الطَرَد جمع طُرُودٌ: کھجور کے پودے۔ الطَرّدان (ز): چھوٹا سا کالے رنگ کا دانہ جو گیہوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ الطَریدَۃ جمع طَرائِد: ریشمی کپڑے وغیرہ کا لمبا ٹکڑا۔ المَطْرَدَۃ و المِطْرَدَۃ: شاہراہ، شاہراہ کا درمیان

○ طَرَدَہٗ من مَنصَبِہٖ: کو برخاست کرنا، کی اسکے منصب سے چھٹی کرنا۔ استطرد من ذلك الی قولہ ان: اس پر وہ کہتا رہا، پھر اس نے ...... کے موضوع پر بحث چھیڑ دی، اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ۔ طَرْد: بھگانا، برخاستگی، جلا وطنی، شکار، شہد کی مکھیوں کی فوج، پارسل، گانٹھ، گٹھری، (جمع طُرُود) بَحثُ مسألۃ طردًا عکسًا: کسی مسئلہ کا سب گوشوں سے اور اس کے تمام پہلوؤں سے مطالعہ کرنا۔ طَرّاد: تیز رو جنگی جہاز، پشتہ، بند، خصوصاً، سیلابی پشتہ یا بند (دریائے نیل کا) طَرّادۃ: تیز رو جنگی جہاز۔ طائِرۃُ المُطارِدَۃ لڑاکا ہوائی جہاز، تعاقب کرنے والا ہوائی جہاز، راہ میں حائل ہونے والا ہوائی جہاز۔ استطراد جمع استطرادات: تجاوز، انحراف۔ مُطَّرِد النسق: یکساں، بالکل ایک سا۔ مطرد النغم اکتا دینے والا (گیت)

طرز: ۱۔ طَرِزَ ۔ طَرَزًا: بدخلق ہونے کے بعد خوش خلق ہو جانا۔ فی الملبس فاخرہ اور خوشنما لباس پہننا۔ طَرَّزَ الثوبَ: کپڑے پر نقش ونگار اور بیل بوٹے ڈالنا۔ تَطَرَّزَ الثوبُ: کپڑے کا بیل بوٹے والا ہونا۔ فی لبسہ فاخرہ لباس پہننا۔ الطَرْز ہیئت (کہا جاتا ہے: اسکی ہیئت کتنی خوبصورت ہے)۔ طریقہ، ترتیب۔ الطِراز جمع طُرُز: کپڑے کا نقش ونگار، وہ جگہ جہاں اچھے کپڑے بُنے جاتے ہیں۔ طریقہ، انداز، اسلوب کہا جاتا ہے۔ ھذا علی طِراز ذلك: وہ اس کے طریقہ پر ہے۔ لیس ھذا علی طِرازك: یہ تمہارے طور طریقے پر نہیں۔ الطَرّاز و المُطَرِّز: کپڑوں پر نقش ونگار بنانے والا۔ الطِرازَۃ: کپڑوں پر نقش ونگار بنانے کا پیشہ۔

۲۔ طَرَزَ ۔ طَرْزًا ہ: کو گھونسا مار کر ہٹانا۔

○ طَرَّزَ ہ (کپڑے پر) سوزن کاری کرنا۔ ۔۔ ہ: (کہانی کو) نمک مرچ لگا کر بیان کرنا، پر حاشیہ آرائی کرنا اور زیب داستان کے لئے بڑھانا۔ ہ ب: (ڈش وغیرہ پر) ماکولات ومشروبات جمانا یا سجانا۔ طَرز جمع طُرُوز: مثال، نمونہ، قسم، بناوٹ، ساخت، چھاپ، مارکہ، وضع، طور طریقہ، طریق اسلوب، طرز، انداز، ڈھب۔ طِراز جمع طُرُز و اَطْرِزۃ: مثال، نمونہ، طبقہ، بناوٹ، ساخت، چھاپ، مارکہ قسم، نوع، رنگارنگی، تنوع، وضع قطع، وضع، طریق، طور طریقہ، اسلوب طرز، انداز، ڈھب، سوزن کاری، نوع۔ من الطِراز القدیم: پرانی وضع کی، دقیانوسی، جس کا رواج نہ ہو۔ قدیم الطِراز: پرانی وضع کی، دقیانوسی، جس کا رواج نہ ہو۔ مُسَلَّحٌ بِاَحدثِ طِرازٍ: جدید ترین ہتھیاروں سے مسلح۔ من الطِراز الاول: بہترین، درجہ اول، (First class) کا، نہایت عمدہ۔ (First rate)

تَطریز: سوزن کاری۔

طرس: ۱۔ طَرَسَ ۔ طَرْسًا الشیءَ: چیز کو مٹانا۔ طَرَّسَ الکتابَ: لکھے ہوئے کو اچھی طرح مٹانا۔ ہ: کو بگاڑ دینا، خراب کرنا۔

۲۔ طَرَسَ ۔ طَرْسًا الکتابَ: کتاب لکھنا۔ طَرَّسَ الکتابَ: کتاب لکھنا۔ الباب: دروازہ کو سیاہ کرنا۔ الکاتبُ: کاتب کا لکھے ہوئے پر لکھنا۔ الطِرس جمع اَطْراس و طُرُوس ورق، وہ ورق جس کی تحریر مٹا کر پھر لکھا گیا ہو۔

۳۔ تَطَرَّسَ فی المآکل: عمدہ عمدہ کھانے کھانا۔ عن الشیءِ: کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، توجہ کے لائق نہ سمجھنا۔ سے پرہیز کرنا، گریز کرنا۔

○ طِرس جمع اَطْراس و طُرُوس (کاغذ کا) تختہ، کاغذ۔

طرش: طَرِشَ ۔ طَرَشًا: بہرا ہو جانا، صفت اَطرش م طَرشاء ج طُرش تَطارَشَ جھوٹ موٹ کا بہرا بن جانا، اپنے آپ کو بہرا ظاہر کرنا۔ الطَرشۃ: بہراپن۔ الاَطْرُش و الاُطْروش: بہرا۔

۲۔ طَرَشَ ۔طَرْشاً ہُ بالماء پر پانی پھینک کر اس کو بھگو دینا (عوام کی زبان میں) ۔۔۔ البیتَ: مکان پر سفیدی کرنا (عوام کی زبان میں) الـطَـرْش سفیدی جو دیواروں وغیرہ پر کی جاتی ہے (عوام کی زبان میں)

۳۔ الطَرْش (ح) گائے بیل، ڈھور ڈنگر، ریوڑ، گلے، جھنڈ

۴۔ طَرْشَمَ اللیلُ رات کا تاریک ہو جانا۔

طَرِشَ ۔طَرَشاً بہرا ہونا یا ہو جانا۔ طَرَشَ ہُ تے کرنا، اگلنا۔ طَرَّشَ ہ کو بہرا کرنا۔ طَـرْش سفیدی (جو دیواروں وغیرہ پر کی جاتی ہے) طَـرْش جمع عُـروش گائے بیل (گلہ) بھیڑوں (کا ریوڑ) طَرَشَۃ بہرا پن۔ اَطْرَش م طَرْشاء جمع طُرْش بہرا۔ اطرش اَسَکّ بالکل بہرا (Stone deaf)

طرط ۱۔ طَرِطَ ۔طَرَطاً بے وقوف ہونا، (صفت طَرِطٌ) ابرو اور پلکوں پر تھوڑے بال والا ہونا، صفت طـارِطٌ الحـاجبین و طَرِطُ الحـاجبین اَطْرَطُ الحـاجبین و اَطرط مونث طَرْطاء۔ امراۃ طَرْطاءُ العینین وہ عورت جس کی پلکوں پر بال کم ہوں۔

۲۔ طَرْطَرَ فخر کرنا، ڈینگ مارنا، شیخی بگھارنا۔ الطُرْطُور پتلا لمبا آدمی، لمبی نوکدار ٹوپی، لبنان، شام اور فلسطین میں عورتوں کے سروں پر سجایا جانے والا ایک زیور، کبھی طنطور اور طاسہ بھی کہا جاتا تھا۔ الطَرْطُور (ط) اچار کی ایک قسم۔

۳۔ طَرْطَقَ طَرْطَقَۃً اکثر رات کو آنا، دروازہ کھٹ کھٹانا (سریانی لفظ)

طَرْطَشَ ہ پر چھینٹے مارنا۔

طرف ۱۔ طَرَفَ ۔طَرْفاً عینہُ آنکھ میں کوئی چیز لگانا جس سے پانی نکلے اور بند ہو جائے صفت: مطروفۃ۔ اسم طُرفَۃ ۔۔۔ بصَرَہٗ او طَرَفَ بعینہ آنکھ جھپکانا۔ ت عینہٗ آنکھ کا جھپکنا۔ فلانٌ دیکھنا، کہا جاتا ہے۔ مابقیت منھم عینٌ تَطرِفُ وہ سب مر گئے یا قتل کر دیئے گئے۔ طَـرَفَ ہٗ کی آنکھ میں کچھ گرنا۔ اَطْرَفَ پلکوں کو بند کرنا۔ الـطَـرْف (مص) جمع اَطْراف آنکھ کہا جاتا ہے: نظر بطَرْفٍ خفیٍ ڈر یا شرم سے چوری چھپے دیکھنا، دزدیدہ یا نیم باز آنکھوں سے دیکھنا۔ الطِرف من الناس ندیدہ جو کسی چیز کو دیکھے تو خواہش کرے کہ وہ اس کے پاس ہو۔ الـطَرْفۃ طرف کا اسم مرۃ خون کا نقطہ جو آنکھ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ الطَارِفۃ جمع طَوارِف الطارف کا مونث کہا جاتا ہے۔ جاء بطارفۃِ عینٍ وہ بہت مال لایا جسے دیکھنے والے کی نظر خیرہ ہو گئی۔ الطَوارِف آنکھیں کہا جاتا ہے۔ لاتراہ الطوارِفُ آنکھیں اسے نہیں دیکھتیں۔ طـوارف الخـبـاء خیمے کا وہ پہلو جو باہر دیکھنے کے لئے اٹھا دیا جاتا ہے۔

۲۔ طَرَفَ ۔طَرْفاً ہُ کو تھپڑ مارنا۔ ۔۔ ہُ عنہ کو واپس کرنا، ہٹا دینا۔ طَـرَّفَ الـخـیلَ سب سے اگلے گھوڑوں کو پیچھے ہٹا دینا۔ تطرَّفَ علیھم پر غارت ڈالنا۔

۳۔ طَرُفَ طَرافَۃً نیا خریدہ ہوا مال ہونا یا ہو جانا۔ طَرَّفَ الشیءَ چیز کو پسند کرنا۔ اَطْرَفَ نئی عمدہ چیز لانا۔ ہُ الشیءَ کو کا تحفہ دینا۔ تَطَرَّفَ الشیءَ چیز کو پسند کرنا۔ اِطَّرَفَ الشیءَ کو نیا نیا خریدنا۔ اِستَطْرَفَ ہُ کو نیا شمار کرنا۔ الشیءَ کو نیا پانا، پسند کرنا، سے فائدہ اٹھانا۔ الطِرف نیا مال۔ من الناس وہ شخص جو ملال کی وجہ سے کسی کی صحبت پر برقرار نہ رہے۔ رجُـلٌ طَرِفٌ فی نسبہ نئے شرف والا۔ امراۃٌ طِرفُ الحدیث اچھی باتیں کرنے والی عورت۔ الطَرِف نئے شرف والا۔ غیر مستقل جو کسی معاملہ پر قائم نہ رہے یا کسی جگہ پر نہ ٹکے، جو کسی ایک کی صحبت پر قائم نہ رہے۔ الـطُرفۃ جمع طُـرَف لطیفہ، عمدہ نئی بات۔ الطَارِف (فا) نیا حاصل کردہ مال، اس کا مقابلہ میں لفظ تالد ہے۔ طوارفُ القرائح دل لگتی نفیس اور نئی باتیں۔ الطراف شرافت و بزرگی کہا جاتا ہے۔ تو ار ثوا طِرافاً عن طراف انہوں نے ورثہ میں شرف و بزرگی پائی۔ الطَریف جمع طُرفٌ و طِرافٌ نادر پھل وغیرہ، نئے مال والا، نئے شرف والا، نادر پسندیدہ بات، لطیفہ۔ من المال نیا حاصل کردہ مال (مقابلہ میں تلید)۔ الطَریفۃ جمع طَرائِف الطریف کا مونث کہا جاتا ہے۔ ھل ورائک طریفۃ خبرٍ تطرفنا بہ آپ کے پاس کوئی نئی خبر ہے۔ طرائف الحدیث چیدہ چیدہ باتیں۔ الاُطْرُوفۃ لطیفہ۔ المُطرَف من المال نیا حاصل کردہ مال۔ المطراف (ح) ڈانواں ڈول، اونٹنی جو کوئی سبز چارہ کو چرنے سے اس وقت تک احتراز کرے جب تک کوئی نیا سبز چارہ نہ پالے۔

۴۔ طَرَّفَ ہٗ کو کنارہ پر کر دینا۔ بنانہٗ مہندی سے پوروں کو رنگنا۔ اَطْرَفَ کذا بکذا کسی چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا۔ تَطَرَّفَ کنارہ پر آنا۔ الشیءُ چیز کا کنارہ پر ہو جانا، حد اعتدال سے تجاوز کرنا۔ تَطَرَّفَ فی آراءہ اپنی رائے میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانا۔ تَطَرَّفَتِ الشمسُ سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الشیءَ کو اطراف سے پکڑنا۔ الطَرَف جمع اطـراف۔ کنارہ، ہر چیز کی حد، شریف نوجوان یا مرد۔ الـطـرف جمع اطـراف نجیب الطرفین۔ جمع طُرُوف و اَطْراف م طِرْفَۃ اصیل گھوڑا وغیرہ۔ الطَرَف جمع اَطْراف و جج اَطارِیف ہر چیز کی حد، حصہ انتہا کنارہ، شریف مرد۔ اَطْرافُ البدن دونوں ہاتھ، پاؤں اور سر۔ ۔۔۔ الناس ادنی لوگ، اشراف، خاندانی لوگ۔ الرجلِ قریبی رشتہ دار۔ الطراف جمع طُرَف فصل کا وہ حصہ جو اطراف سے کاٹا گیا ہو۔

۵۔ الـطَرَف من النبات جو پودہ ابھی شگوفہ کے غلاف میں ہی ہو۔ الطَرَف جمع اَطْراف و جج اَطاریف چیز کا ٹکڑا۔ الـطِراف جمع طُـرُف چمڑے کا خیمہ۔ المِطْرَف و المُطْرَف جمع مَطارِف نقش و نگار والی ریشم کی چادر۔ المَطْرُوف کولہو (پانی سے چلنے والا)

طَرَفَ ۔طَرْفاً و طرف بعینیہ آنکھیں جھپکنا، پلک جھپکنا، کنکھیوں سے دیکھنا، نیم وا آنکھوں سے دیکھنا۔ طَرُفَ ۔طَرافَۃً (مال وغیرہ کا) نیا حاصل شدہ ہونا، حال ہی میں خریدا ہوا ہونا۔ اَطْرَفَ کوئی نئی، انوکھی نرالی یا عجیب بات کرنا، یا کو نمایاں طور پر لانا، کوئی نئی اور اصلی بات کہنا، کوئی انوکھا زاویہ نگاہ یا خیال رائج کرنا یا متعارف کرانا۔ ۔۔۔ ہ ب کو کوئی نئی یا انوکھی چیز پیش کرنا یا دینا۔ تَطَرَّفَ انتہائی پہلو پر ہونا، انتہائی نقطہ نگاہ یا موقف رکھنا، افراط و تفریط سے کام لینا، یکسر تبدیلی کا حامی ہونا، بنیادی تبدیلیوں کے خیالات کا حامل ہونا۔ طَرْف آنکھ، سرسری یا اچٹتی ہوئی نظر، نظر نگاہ۔ ما اَشار بطَرْفٍ اس نے آنکھ نہ جھپکی۔ من طرف خفی چوری چھپے دزدیدہ، ہوشمندی سے۔ کارتداد الطرف پلک جھپکنے میں، فوراً، فی الفور۔ طَرَف جمع اطراف زیادہ سے زیادہ یا انتہائی حصہ، سب سے پرے کا نقطہ، حد، انتہا، سرا، کنارا، طرف، پہلو، رخ، علاقہ۔ طَرَفٌ من کا ایک حصہ، ٹکڑا، پرزہ، کچھ، فریق (جھگڑے یا معاہدہ وغیرہ کا) طَرَفَ کے ساتھ، پر کی طرف سے۔ جمع اطراف بازو اور ٹانگیں، ہاتھ پاؤں جسے۔ طَرَفَیِ النھارِ صبح و شام کو، صبحیں اور شامیں۔ کانوا علی طرفی نقیض وہ مختلف الرای تھے، انہوں نے باہمی منافرت جاری رکھی۔ کان وایّاہ علی طرفی نقیض انہوں نے یکسر متضاد خیالات یا موقف رکھے۔ اطراف البدن ہاتھ پاؤں۔ اطراف الاصابع پوریں۔ علی اطراف قدمیہ پنجوں کے بل۔ اطراف المدینۃ شہر کے دور افتادہ علاقے۔ الاطراف المتعاقدہ معاہدہ کرنے والے فریق۔ بـطَـرَف کی طرف سے، کی

جانب سے۔من طرف: کی طرف سے۔من طرف
الی طرف ایک سرے سے دوسرے سرے تک۔
احزاب طرف الیمین. دائیں بازوؤں کی پارٹیاں۔
جاذبَ اطراف الحدیث بات چیت کرنا، مذاکرات
کرنا۔جمع البراعۃَ من اطرافِھَا اعلٰی قابلیت کا حامل
ہونا، اعلٰی اہلیت کا مالک ہونا، اعلٰی درجے کا اہل اور
علمیت رکھنے والا ہونا۔جمعَ اَطراف الشیءِ: کا
جائزہ یا خاکہ پیش کرنا، کا خلاصہ کرنا، کی تلخیص کرنا،
خلاصہ مطالب بیان کرنا۔قصَّ علیہ طرفا (اطرافاً)
من حیاتہ کو اپنی زندگی کا کوئی واقعہ یا واقعات سنانا۔
طُرْفَۃ: بطرفۃ عین و فی طرفۃ عین آنکھ جھپکتے
میں، فوراً، علی الفور۔طُرْفَۃ جمع طُرَف انوکھا پن،
ندرت، نادر شے، نادرۂ روزگار، تحسس، منتخب چیز، عمدہ
تحفہ، شاہکار، کامیاب کوشش، نمایاں خصوصیت۔بڑی
چیز، اصل بات (Piece deresistance)
طَرفاء واحد طرفاءۃ ایک سدا بہار چھوٹی جھاڑی۔
طریف: عجیب، انوکھا، عمدہ، نادر، نرالا، غیر معمولی۔
طریفۃ جمع طرائف نادر اور نہایت عمدہ چیز (آرٹ
وغیرہ) کا غیر معمولی ٹکڑا۔طرائف. نوادر، عجیب و
اقعات، غیر معمولی بیان یا کمالات۔طَرافۃ نرالی چیز،
غیر معمولیت، انوکھاپن، خصوصیت، عجیب شے، تخلیقی
قوت۔مِطرف شال۔تطرُّف: زیادتی، اسراف،
انتہا پسندی، انتہائی نقطۂ نگاہ یا موقف، انقلابی
سیاست، بنیادی تبدیلیوں کی حمایت پر مبنی سیاست۔
طارف نیا حاصل شدہ۔متطرف: انتہاء پسند، بنیادی
تبدیلیوں کا حامی، انتہائی۔جِہۃ متطرفۃ دورافتادہ
علاقہ۔

۶۔ طَرْفَس نظر تیز کرنا، بہت کپڑے پہننا۔اللیلُ: رات
کا تاریک ہونا۔المورد گھاٹ کا گدلا ہونا۔الماء
پانی پر آنے جانے والوں کا زیادہ ہونا۔الطِرْفِسان:
تاریکی، اندھیرا، بچھونا، غالیچہ۔الطِرْفساء تاریک
(رات)

طرق: ا۔ طَرَقَ ـُ طَرْقاً ہُ: کو ہتھوڑا مارنا۔ــ الحنطۃَ:
چھانتے ہوئے گندم سے چھوٹے گیہوں کے دانے
نکال دینا۔النجّادُ الصُّوفَ: اون دھننا۔ــ الشیءَ:
کو بجانا۔البابَ: دروازہ کھٹکھٹانا۔الرجُلُ: جادو منتر
کے طور پر کنکریاں ڈالنا۔طَرْقاً و طُرُوقاً القومَ:
کے پاس رات کو آنا۔طَرَّقَ الحدیدَ: لوہا کوٹ کر لمبا اور
پتلا کرنا۔استطرقَ ہُ: جادوگر سے مشورہ کرنا اور اسے
کنکریاں ڈالنے کے لئے کہنا۔الطارق (فا) جمع
طُرّاق و اَطْراق رات کو آنے والا (فک) صبح کا
ستارہ۔الطارقۃ جمع طَوَارِق و طارقات (طارق کا
مونث) مصیبت۔الطَرْق والطُرق و الطَرْقَۃ:
مرتبہ۔(ایک دفعہ کہا جاتا ہے۔اتیتہ الطَرْقَۃ
طَرْقَتَیْن: میں اس کے پاس دو دفعہ آیا۔ــ الطرقۃ جمع
طِرَق طرق کا اسم نوع۔الطِراق: ڈھال وغیرہ پر لگایا
ہوا لوہے وغیرہ کا پتر۔الطراقیۃ چھاننے پر نکلا ہوا
کمزور گندم کا دانہ۔المِطرق و المِطرقۃ جمع مَطارِق
اون دھننے کا ڈنڈا، ہتھوڑا۔

۲۔ طرِقَ ـَ طَرَقاً ت الابلُ الماءَ: اونٹوں کا پانی میں
گھسنا۔طرِق۔طَرْقاً گدلا پانی پینا۔الطَرَق. پانی
جمع ہونے کی جگہیں۔ماءٌ مَطْرُوق. وہ پانی جس میں
اونٹ پیشاب اور مینگنی کر کے گندہ کر دیں۔

۳۔ طرِق طَرَقاً البعیرُ. اونٹ کا کمزور، گھٹنے یا ٹیڑھی
پنڈلی والا ہونا۔صفت۔اَطْرَق م طَرْقاء جمع طُرْق
طُرِق الرجُلُ: کمزور عقل والا ہونا۔اَطْرَقَ: نظریں
جھکانا، خاموش رہنا۔اَطرَقَ راسَہُ: سر جھکانا، نظریں
نیچے کر کے زمین کی طرف دیکھنا۔الی اللھو کھیل کی
طرف مائل ہونا۔الطِرّیق م طِرّیقۃ و المِطراق
جمع مَطارِیق: بہت سر جھکانے والا۔المَطْرُوق:
(مفع) نرم اور ڈھیلا، بیوقوف اور جنونی۔

۴۔ طَرَّقَ لہُ: کے لئے راستہ بنانا۔الموضِعَ: کسی جگہ کو
راستہ بنانا، کہا جاتا ہے۔لاتُطَرِّقُوا المساجدَ:
مسجدوں کو گزرگاہیں نہ بناؤ۔ــ طریقۃً حسَنۃً: اچھا
طریقہ ایجاد کرنا یا تخلیق کرنا۔ــ ت الحامِلُ بولدھا:
حاملہ کا بچہ کو مشکل سے جننا۔ــ ت القطاۃُ: سنگ خوار
پرندے کے انڈے دینے کا وقت قریب آنا، کہا جاتا
ہے: طَرَّقَ بحقی اس نے پہلے تو میرے حق کا انکار
کیا پھر اسکو مان لیا۔اَطْرق الرجُلُ: پیدل چلنا۔
تَطرَّقَ الیہ: چلتے رہ کر کسی کے پاس پہنچنا۔ــ الی
الأمر کی طرف راستہ تلاش کرنا۔اِطّرَقَ ت
الابلُ اونٹوں کا متفرق ہونا اور سیدھے راستہ کو چھوڑ
دینا۔استَطرَقَ الشیءَ: کو راستہ بنانا۔بین الصفوف:
صفوں کے درمیان چلنا۔الطِرقۃ جمع طِرَق: طریقہ۔
الطُرُقۃ جمع طُرَق: راستہ، طریقہ، عادت، طمع۔
الطَریق جمع طُرُق و اَطرُق و اَطرِقۃ و اَطرِقاء و
جج طُرُقات: راستہ (مذکر و مونث) فقہاء کے
نزدیک ایک تو عام راستہ ہے۔النافِذ والطریقِ
العام کہلاتا ہے۔ایک خاص جو غیر النافِذ اور
الطریق الخاص کہلاتا ہے۔الطریقۃ جمع طرائق:
عادت، حالت، طریقہ، دھاری، کپڑے کا لمبا ٹکڑا، قوم
کا شریف اور افضل (واحد اور جمع کیلئے) کہا جاتا
ہے۔ھو طریقۃُ قومِہِ وھم طریقۃُ قومِھم او
وھم طرائق قومِھم. وہ (ایک) اور وہ (جمع) اپنی
قوم کے شریف اور افضل افراد ہیں۔طرائق الدھر
زمانہ کے گردشیں۔المطاریق: پیدل چلنے والے
لوگ۔

۵۔ طَارَقَ بین الثوبین: کپڑے اوپر نیچے پہننا۔ــ
الظلامُ او الغمامُ: تاریکی یا بادل کا پے در پے آنا۔
اَطْرَقَ ت الابلُ اونٹوں کا ایک دوسرے کے پیچھے
چلنا۔تَطَارَقَ الشیءُ: لگاتار آنا، آگے پیچھے آنا۔
الابلُ اونٹوں کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا۔اِطّرق
ت الابلُ اونٹوں کا ایک دوسرے کے پیچھے جانا۔جناحُ
الطائر پرندے کا بازوؤں کو لپیٹنا۔ــ التُرابُ: مٹی
کے ایک حصہ کا دوسرے حصہ پر ترتیب سے رکھا جانا،
چنا جانا، رکھا جانا۔الطَرَق (مص) اَطْراق شکم کی
سلوٹ، اونٹوں کے نشان۔اَطْراقُ البطن. پیٹ
کے سلوٹ اور بل۔الطِراق جمع طُرُق: جوتی کا چمڑا،
چمڑے کا استر۔الطُرقۃ جمع طُرَق: تہ بتہ پتھر۔
المِطْراق جمع مطاریق نظیر۔المَطارِیق: اونٹوں کی
قطار۔

۶۔ اَطْرَقَ الرجُلُ: مرد کا نکاح کر لینا، شادی کر لینا۔

۷۔ اَطْرَقَ الصیدَ: شکار کے لئے پھندا لگانا۔الطُرق
و الطِرق جمع اَطْراق و الطَرقۃ جمع طَرق پھندا،
جال۔یا ان جیسی کوئی چیز۔

۸۔ الطّارِقۃ جمع طَوَارِق و طارِقات: کنبہ، چھوٹا تخت۔
الطَرِیقۃ جمع طَرائق: لمبا درخت خرما، خیمہ یا چھتری کا
ستون۔ثوبٌ طَرائقُ: پرانا کپڑا۔

☐ طرَقَ اُذُنَہُ: کے کان پر مارنا، کے کان تک پہنچنا (کوئی
بات) طرق ببالہ: کے خیال آنا۔طرق فی ذھنہ
کو خیال آنا۔طرق سمعَہُ و طرق مسامِعَہُ: کے
کانوں تک پہنچنا، کے علم میں آنا، کی توجہ میں آنا۔
طرق طریقاً: راستہ پر چلنا، سفر کرنا، راستہ اختیار کرنا یا
استعمال کرنا۔طرق موضوعاً: کے موضوع پر ہونا،
کے موضوع کے متعلق ہونا، موضوع پر بحث کرنا،
موضوع سے بحث کرنا، کسی موضوع پر بحث چھیڑنا، کسی
موضوع وغیرہ کے متعلق کچھ کہنا۔اَطْرَقَ: خاموش رہتے
ہوئے سر جھکا لینا۔اَطْرَقَ راسَہُ یا اَطْرَقَ براسِہِ:
اپنا سر جھکا لینا۔تَطرق الی: تک رسائی حاصل کرنے
کا خواہاں ہونا، میں سرایت کرنا، کے آر پار ہو
جانا۔(کی) تہہ تک پہنچنا، تک پہنچنا، میں آنا۔تطرّق
الی: (تقریر وغیرہ میں) کسی موضوع کے متعلق کچھ
کہنا، کی تفاصیل میں جانا، کے متعلق یا پر ہونا۔

لایتطرق الیہ شکٌ: غیر مشتبہ کوئی شک و شبہ قابل قبول نہیں۔ طُرُقَۃ جمع طَرَقات: دروازہ پر دستک، دستک دینا، دروازہ کھٹکھٹانا، گھونسا، مکہ ضرب، ایک بار۔ طرقتین: دو بار۔ طُرُقَۃ: راستہ، سڑک، گزرگاہ، روش، خیابان، غلام گردش، طریق (مذکر و مونث) جمع طُرُق و طُرُقات: راستہ، سڑک، شاہراہ، لیک، پگڈنڈی۔ طریقُ الجوّ: ہوائی راستہ (Air route) طریقُ البحر: سمندری راستہ (Sea route) طریق رئیسی: بڑی سڑک Main road طریقٌ عام: شاہراہ، شارع عام، عام گزرگاہ۔ طریق عُمُومِیَۃ: بمعنی طریق عام۔ عن طریقِ: کے راستہ، براہ، کے ذریعے، کے باعث، کے نتیجہ میں۔ عن طریق الجوّ: ہوائی جہاز میں یا سے، طیارے سے۔ مِن طریقِ: کے ذریعے، کے باعث کے نتیجہ میں۔ عابِرُ الطریق: سیلانی، پیادہ رو، راہ گیر، راہی۔ قاطِع الطریق جمع قُطَّاعُ الطُرُق: رہزن، ہٹ مار، قزاق۔ قَطعُ الطریق: رہزنی۔ کان فی طریقہ: سوجھ بوجھ رکھنا، عقل رکھنا، عقلمند، ہوش مند یا زیرک ہونا، مثالی، یا معیاری ہونا۔ طَرِیقَۃ جمع طَرائِق و طُرُق: طریقہ، انداز، اسلوب، طور طریقہ، وضع قطع، چال ڈھال، ذریعہ، راستہ، طریقہ کار، نظام، طریق، طرز، مذہب، مسلک، عقائد، یقین، ایمان جمع طرقات و طُرُق: مذہبی بھائی چارہ، درویشی طریقہ۔ طریقۃ الاستعمال: استعمال کے لئے ہدایات۔ طُرُقی جمع طُرُقیون: ایک مذہبی بھائی چارہ کا پیرو۔ مِطْرَقَۃ و مِطْرَق جمع مَطَارِق: ہتھوڑا۔ مِطْرَاق: ہمہ گیر، کئی پہلوؤں والا، مختلف مہارتوں اور صلاحیتوں کا حامل۔ اِطْرَاقۃ: سر کا ایک بار جھکانا۔ استطراق: راہداری۔ عبور کرنے یا گزرنے کی اجازت، صفت گزرنا، یا داخل ہونا۔ طارِق: دروازہ کھٹکھٹانے والا، رات کو آنے والا مسافر، ملاقاتی۔ طارِقۃ جمع طَوارِق: بدقسمتی، بدنصیبی، بدبختی، حادثہ، آفت، مصیبت، سانحہ۔ مطروق: (سڑک) پگڈنڈی جس پر اکثر آمد و رفت رہتی ہو، یا سفر کیا جاتا ہو، چل چل کر بنی ہوئی پگڈنڈی، موضوع مَطرُوق: موضع جس پر بہت بحث کی گئی ہو، جس پر بہت کچھ کہا گیا ہو۔ مُطرِق و مطرق الرأس: سر جھکائے۔

طرم: ۱۔ طَرِمَ - طَرَمًا بیتُ النحل: چھتہ کا شہد سے بھر جانا۔ طَرِمَ العسلُ: شہد کا چھتہ سے بہنا۔ الطَّرْم و الطِّرْم: شہد۔ الطرمۃ: یکبارگی۔

۲۔ اطْرَمَّت اسنانُہُ: دانتوں کا میلا ہونا۔ — فوہٗ: منہ کا ذائقہ یا بو خراب ہونا، یعنی منہ بدبودار ہونا یا بدمزہ ہونا۔ الطُرَامَۃ: دانت کے اوپر کی زردی، دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا، منہ پر سوکھا ہوا تھوک۔

۳۔ تَطَرَّمَ فی الکلام: کلام کرنے میں رکنا۔ گڑبڑا جانا۔

۴۔ الطُرْمَۃ: جگر۔ و الطِرْمۃ و الطُرمۃ: اوپر کے ہونٹ کا گڑھا۔

۵۔ الطُرْمُوث جمع طَرَامِیث: بھوبھل کی پکی ہوئی روٹی۔

۶۔ طَرْمَحَ البناءَ: عمارت لمبی بنانا۔ الطِرِمّاح و الطُرْمُوح: لمبا۔ الطِرِمّاح: لمبا، مشہور، عالی نسب، اونچے عزائم رکھنے والا۔

۷۔ طَرْمَذَ: جھوٹا فخر کرنا، لاف زنی کرنا، صفت طِرْمَاذ و طِرمِذان۔

۸۔ طَرْمَسَ: ڈر سے چپ ہونا، کسی چیز کو ناپسند کرنا، بھاگ جانا۔ الوجہُ: ترش رو ہونا۔ الکاتبُ الکتابۃَ: کاتب کا تحریر مٹا دینا۔ واطْرَمَّسَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ الطِرْماس و الطِرْمِس و الطِرْمِساء: سخت تاریکی۔ الطُرْمُوس و الطُرْمُوسَۃ: بھوبھل کی پکی ہوئی روٹی۔ عام لوگ اسے طَلْمُوسَۃ کہتے ہیں (سریانی زبان کا لفظ ہے)

○ طَرْقَعَ ۵/ب: (چابک کا) کسی چیز میں درز ڈالنا -- ۵ کسی چیز میں درز ڈالنا، کو تڑقانا، چرمر کرنا۔ طَارِمَۃ جمع طارِمات: کھوکھا، عارضی دکان، کٹیا، جھونپڑا، جھونپڑی، کمرہ، کوٹھری، سٹال (Stall) طُرُمْبَۃ جمع طُرُمْبات: پمپ (Pump)

طرا: ۱۔ طَرُوَ - وطَرِیَ - طَرَاوَۃً و طَرَاءَۃً و طَرَاءً و طَرَاۃً الغصنُ او اللحمُ: شاخ اور گوشت کا تر و تازہ اور نرم ہونا صفت طَرِیٌّ۔ طَرَّی الشیَٔ: کو تر و تازہ اور نرم کرنا۔ أطْرَی اطْرَاءً فلانًا: کسی کی بہت تعریف کرنا۔ الطَرِیّ: تر و تازہ اور نرم۔ الاُطْرُوان من الشباب: آغاز جوانی، ابتداء شباب۔

۲۔ طَرَا - طُرُوًّا علیہم: کے پاس دور سے آنا۔

۳۔ طَرَّی الطیبَ: خوشبوؤں کو مخلوط کرنا۔ — الطعامَ: کھانے میں مسالہ ملانا۔ اِطْرَوْرَی: بدہضمی ہونا، پیٹ پھول جانا۔ الإطرِیۃ: سویاں

۴۔ الطَّرَا: زمین میں وہ چیز جو غیر جنس زمین سے ہو یعنی مٹی، ریت اور پتھر نہ ہو۔ لاتعداد مخلوق۔

طری: طَرِیَ - طَرِیَّ الیہ: کے پاس آنا۔

○ طَرُوَ - وطَرِیَ - طَرَاۃ: تازہ ہونا یا ہو جانا، رس بھرا یا رسیلا ہونا یا ہو جانا، بھیگا بھیگا ہونا یا ہو جانا ملائم و نرم ہونا یا ہو جانا، پکا ہونا یا ہو جانا۔ طَرَّی ۵: کو تازہ کرنا، نرم و ملائم کرنا، رسیلا کرنا، ہلکا کرنا، کو بھگونا، تر کرنا، کو خوشبو لگانا، یا میں خوشبو ڈالنا، کا عطر لگانا۔ أطرَیَ ۵: کی تعریف کے پل باندھنا، تعریف کرنا، کی دل کھول کر تعریف کرنا۔ طَرِیّ: تر و تازہ، رسیلا، رس بھرا، نیا، بھیگا بھیگا، نرم ملائم، ہلکا۔ طَرَاوۃ: تر و تازگی، رسیلاپن، بھیگا بھیگا ہونا، نرمی، ملائمت، ہلکا ہونا۔ طراوۃ الخُلق: شرافت، خصائل کی نرمی۔ اِطْرَاء: بہت تعریف۔ طِرْوَادَۃ: ٹرائے (Troy)

طزر: طَزَرَ - طَزْرًا ۵: کو مکا مار کر ہٹانا۔

طسّ: ۱۔ طَسَّ - طَسًّا ۵: سے جھگڑے میں غالب ہونا، کو خاموش کرنا۔

۲۔ طَسَّ - طَسًّا ۵ فی الماء: کو پانی میں غوطہ دینا۔ القومُ: دور تک چلا جانا، کہا جاتا ہے۔ ما ادری این طسّ: میں نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا۔ طَسَّسَ: جانا۔ فی البلاد: میں سفر کرنا، ملک کے آر پار ہو جانا۔

۳۔ الطَّسّ جمع أطساس و طُسُوس و طِسِیس و الطِسَّۃ او الطَسَّۃ جمع طَسَّات و طِسَات و طِسَس و طِسَاس: سلفچی، تانبے کا ہاتھ دھونے کا برتن۔ الطَسَّاس: سلفچیاں بنانے یا بیچنے والا۔ الطِساسۃ: سلفچی بنانے کا پیشہ۔

○ طَازَۃ: تر و تازہ، نرم و نازک، نیا۔ طَازِج: تر و تازہ نیا۔ طَزِینَۃ جمع طَزَازِن: درجن۔ طَسْت و طِسْت جمع طُسُوت: تسلا، چلچی، سلفچی، بیسن۔

طسأ: ۱۔ طَسَأَ - طَسْأً و طَسِیَٔ - طَسَأً: تخمہ ہونا، بدہضمی ہونا، صفت طَاسِیٌ و طَسِیٌّ۔ أطْسَأَہٗ: کو بدہضمی کرنا۔ الطُسْأۃ: تخمہ، بدہضمی، ہیضہ۔

۲۔ طَسَأَ - طَسْأً منہ: سے شرمانا۔

طست: الطَسْت جمع طُسُوت: تسلا، چلچی، ہاتھ دھونے کا تانبے کا برتن (فارسی لفظ)

طسع: طَسَعَ - طَسْعًا فی البلاد: ملک میں جانا۔ طَسِعَ - طَسَعًا: بے غیرت اور مفلس ہونا۔ صفت طَسِع و طَسِیع

طسم: ۱۔ طَسِمَ - طَسَمًا: تخمہ ہونا، بدہضمی ہونا۔

۲۔ طَسَمَ - طُسُمًا الشیءَ: کو مٹانا۔ — طُسُومًا: مٹنا۔ الطَسَم: تاریکی، غبار۔ طَسَمٌ او أطْسَام من سحاب: تھوڑے سے بادل۔ الطَسَام و الطُسَّام و الطُسَّام من الغبار: بہت غبار۔

۳۔ طَسَمَ الموسی: استرا کو چمڑے کی پٹی پر تیز کرنا (عام زبان میں) الطَسْمَۃ: چمڑے کی پٹی جس پر استرا تیز کیا جاتا ہے (فارسی لفظ)

طش: طَشَّ - طَشًّا و أطَشَّت السماءُ: آسمان سے پھوار برسنا۔ طُشَّ الرجلُ: زکام جیسی بیماری میں مبتلا

ہونا۔ الطَشّ: پھوار۔ الطُشَّۃ: (طب) زکام جیسی بیماری۔ الطِشَّۃ: چھوٹا بچہ۔ الطشاش (طب): زکام کی طرح کی بیماری۔ الطَشَاش: نگاہ کی کمزوری، اس سے مثل ہے: الطَشَاشُ ولا العمی: محض نگاہ کی کمزوری ہے، اندھاپن نہیں ہے۔ الطَشِیش: پھوار

طشت: الطَشْت: دیکھو الطست (فارسی لفظ)

○ طَشْت و طِشْت جمع طُشُوت: تسلا، چلمچی، سلفچی، پچی، بیں۔ طَشْقَنْد: طاشقند، ازبکستان (روس کا) دارالحکومت۔ طَصْلَقَ (ہ): (کوئی کام وغیرہ) غلط طور پر کرنا یا خراب طور پر کرنا، پھوہڑ پنے سے کرنا، اناڑی پن سے کام خراب کرنا، کھیل بگاڑنا، بھونڈے پن سے کام کرنا، دل لگا کر کام نہ کرنا، کام بگاڑنا۔ طَصْلَقَۃ: غلط یا پھوہڑ پن یا اناڑی پن سے کیا ہوا کام۔

طعم: ۱۔ طَعِمَ - طَعْمًا و طُعْمًا الشیءَ: کو چکھنا۔ طَعْمًا و طَعَامًا الطعامَ: کھانا کھانا۔ طَعِمَ - طَعْمًا: پیٹ بھر کر کھانا، سیر ہو کر کھانا۔ کہا جاتا ہے: ما یطعَمُ آکلُ ھذا: اس کا کھانے والا سیر نہیں ہوتا۔ طَعَّمَ العظمُ: ہڈی کا گودے دار ہونا۔ طَاعَمَ ہٗ: کے ساتھ کھانا۔ أَطْعَمَ ہٗ: کو کھلانا کو خوراک دینا۔ الشیءُ: مزے دار ہونا، کے مزے میں تبدیلی آنا۔ الشجرُ: درخت کا پھل دینا، اس کے پھلوں کا پکنا۔ تَطَعَّمَ الشیءَ: کو چکھنا۔ مثل ہے۔ تَطَعَّمْ تَطْعَمْ: چکھو تا کہ خواہش سے کھاؤ، اشتیاق پیدا کرنے کے لئے یہ مثل بیان کی جاتی ہے۔ اِطَّعَمَ: مزے دار ہونا۔ ـت الشجرۃُ: درخت کا پھل پکنا۔ استَطْعَمَ: چیز کا مزہ پانا۔ ہٗ: سے کھانا طلب کرنا۔ — الطعامَ: کھانے کا ذائقہ معلوم کرنے کے لئے اس کو چکھنا۔ کہا جاتا ہے: اِسْتَطْعَمْتُہُ الحدیثَ: اس نے اس سے اپنی بات سے لطف اندوز کرنے کی درخواست کی۔ رجُلٌ ذُو طَعْمٍ: عقل مند، سمجھ دار آدمی۔ الطُعْم: کھانا۔ (کہا جاتا ہے۔ ھذا طعامُ طُعْمٍ: یہ کھانا کھانے سے کھانے والا سیر ہو جاتا ہے)۔ پرندے یا مچھلی کو شکار کرنے کے لئے ڈالا ہوا دانہ یا چارہ۔ عند العامۃ: زہر۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ وضع لہ طُعْمًا: اس نے اسے زہر دیا۔ الطُعْمَۃ جمع طُعَم: خوراک، رزق، کھانے کی دعوت، کسب و کمائی کا ذریعہ، کہا جاتا ہے۔ جعلتُ ضیعتی طُعْمَۃً لفلانٍ: میں نے فلاں شخص کو اپنی زمین کاشت کے لئے کرایہ پر دی۔ الطِعْمَۃ: کھانے کا طریقہ، گزاران کا ذریعہ۔ الطَعَام: (مص) جمع أَطْعِمَۃ جمع أَطْعِمَات: کھانا، گیہوں۔ الطَعِم و الطاعِم: خوش خوراک۔ کہا جاتا ہے: أَنا طاعِمٌ عن طعامِکم: میں تمہارے کھانے سے مستغنی ہوں (مجھے تمہارے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں)۔ جَزُورٌ طَعُومٌ و طَعِیمٌ: قابل ذبح اونٹ جو نہ مریل ہوں نہ فربہ۔ الطَعُومَۃ: کھانے کے لئے روکی ہوئی بکری۔ الطَعَامِیّ: کھانا بیچنے والا۔ المِطْعَام: بڑا مہمان نواز۔ المُطْعَم: رزق دیا ہوا۔ المَطْعَم ج مَطَاعِم: کھانے کی جگہ۔ خوراک۔ المِطْعَم م مِطْعَمَۃ: کھانے کا حریص، زیادہ کھانے والا۔ المفطُعُوم (مفع): کھانے یا چکھنے کی چیز۔

۲۔ طَعِمَ - طَعْمًا الغصنُ: ایک درخت کی ٹہنی کا دوسرے درخت کی ٹہنی سے مل جانا۔ طَعَّمَ الغصنَ (ز): ٹہنی کو دوسرے درخت کی ٹہنی سے پیوند لگانا۔ — الصحیح (طب): کو ٹیکہ لگانا۔ طَاعَمَ و تَطَاعَمَ الحَمام: کبوتر کا اپنی مادہ کی چونچ میں اپنی چونچ ڈالنا۔ أَطْعَمَ الغصنَ: بمعنی طَعَّمَ الغصنَ: اِطَّعَمَ: عرب کہتے ہیں: ھو لا یَطَّعِمُ: نہ تو وہ ادب سیکھتا ہے نہ اصلاح ہی اس میں کوئی خوشگوار اثر کرتی ہے۔ المَطْعُوم (ز): پیوند (ٹہنی وغیرہ)۔ ٹیکہ۔ التطعیم (ز): قلم لگانا، پیوند لگانا، پیوند کاری۔

۳۔ طَعِمَ - طَعْمًا و طُعْمًا علیہ: پر قادر ہونا۔ الطُعْم: قدرت۔

○ طَعِمَ - طَعْمًا ہ: کو کھانا، چکھنا، مزے سے چکھنا، کا لطف اٹھانا، سے لطف اندوز ہونا۔ طَعَّمَ ہ: (درخت وغیرہ) کو پیوند لگانا۔ — ہ ب: کو کا ٹیکہ لگانا۔ — ہ ب: پر کسی چیز کی پچی کاری کرنا، منبت کاری کرنا۔ أَطْعَمَ ہ ہ: کو کچھ کھلانا، کو کچھ کھانے کے لئے دینا، کو کوئی خوراک دینا، کو کوئی غذا پہنچانا، کو کھانا یا مشروب پیش کرنا۔ أَطْعَمَہُ من جوعٍ: کی بھوک مٹانا۔ تَطَعَّمَ ہ: کو چکھنا۔ استطعم بمعنی تَطَعَّمَ نیز کھانا طلب کرنا۔ طَعْم جمع طُعُوم: مزہ، ذائقہ، لذت، خوشگوار ذائقہ۔ طَعْمِیَۃ: ایک قسم کا سموسہ۔ طُعْم: پیوند، دانہ، چارہ (شکار کو پکڑنے کے لئے) جانور یا پرندہ جو وحشی جانوروں کو پھانسنے کے لئے رکھا جائے، کسی شخص کو خطرہ میں ڈالنے کے لئے فریب دینے والا شخص۔ جمع طُعُوم: چیچک کے ٹیکہ کی دوا، ویکسین، (Vaccine) طَعِم: مزے دار، لذیذ، چٹپٹا، اشتہا انگیز، بھوک لگانے والا۔ طُعْمَۃ جمع طُعَم: خوراک، چارہ، دانہ، شکار۔ أصبح طُعْمَۃَ النیران: آگ سے تباہ و برباد ہو جانا۔ طُعْمَۃٌ لِمَدافِعِ الحرب: توپوں کا چارا۔ أَضْرَبَ عَنِ الطعام: بھوک ہڑتال کرنا۔ مَطْعَم ج مَطَاعِم: طعام خانہ، ریستوران۔ کھانے کا کمرہ۔ میس (mess)، بحری جہاز پر کھانے کا ہال کمرہ، خوراک، تطعیم: ٹیکہ لگانا۔ inoculation یا Vaccination منبت کاری، پچی کاری، جڑاؤ کا کام، مرقع کام۔

طعن: ۱۔ طَعَنَ - طَعْنًا ہُ بالرمحِ: کو نیزہ مارنا، نیزہ چبھونا۔ طَعْنًا و طَعَنَانًا فی الرجل و علیہ: میں عیب نکالنا، کو طعنہ مارنا۔ تَطَاعَنَ تطاعُنًا و طِعانًا و اِطَّعَنَ القومُ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔ الطَعْنَۃ جمع طَعْن و طَعَنَات: نیزے کی ضرب، نیزہ کی ضرب کا نشان۔ الطَعَّان و المِطْعَن و المِطْعَان جمع مَطَاعِن و مَطَاعِین: بڑا نیزہ باز۔ ھو طَعَّانٌ فی اعراض الناس: وہ لوگوں کی تحقیر کرنے والا ہے۔ وہ گستاخ ہے۔ الطعین جمع طُعُن: نیزہ کی ضرب کھایا ہوا۔ الطِعِّین: جنگ میں ماہر نیزہ باز۔ المَطْعَنَۃ: نیزہ بازی۔

۲۔ طَعَنَ - طَعْنًا فی المفازۃ: بیابان میں جانا۔ فی السِنّ: بوڑھا ہونا۔ الفرسُ فی العِنان: گھوڑے کا لگام کھینچ کر تیز چلنا۔ طَعْنًا و طَعَنَانًا اللیلَ: ساری رات چلنا۔

۳۔ طُعِنَ الرجُلُ: طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ الطاعُون جمع طَوَاعِین (طب): طاعون کی بیماری، پلیگ، وباء سے موت۔

○ طَعَنَ - طَعْنًا ہ / ہ ب: کو کچھ گھونپنا، بھونکنا، چبھونا، کو سے چھیدنا۔ ہ: کو خنجر وغیرہ، گھونپنا، بھونکنا۔ فی / علی: کو بدنام کرنا، رسوا کرنا، کی بدگوئی کرنا، کی ساکھ ختم کرنا، کو لفظوں سے ایذا دینا، کی برائی کرنا۔ فی حکم: فیصلہ کے خلاف دلیل پیش کرنا، فیصلہ کو چیلنج کرنا، حکم کے خلاف اپیل کرنا، حکم پر نکتہ چینی کرنا۔ — فی: کو غلط ثابت کرنا، کی تردید کرنا۔ — فی: میں داخل ہونا۔ طعن فی السِن: بوڑھا ہو جانا۔ طعن فی قول: عقیدہ کو غلط ثابت کرنا یا اسکی تردید کرنا۔ تطاعن: ایک دوسرے کو زور سے دھکیلنا، ایک دوسرے پر حملہ کرنا، باہم جنگ کرنا۔ مَطاعن فی: کے خلاف سب و شتم۔ دشنام طرازیاں۔ طَاعِن و طاعِن فی السن: بوڑھا۔ رسالۃ طاعنۃ: سخت ہجو۔ مطعون: طاعون زدہ۔

طغر: طَغَرَ - طَغْرًا ہُ: کو ہٹانا، دور کرنا۔ الطُغْرَاء و الطُغْرَی جمع طُغْرَاءَات و طُغْرَیات: فرامین

شاہی اور سکوں پر بنائی جانے والی علامت، عوام اسے طُرّہ کہتے ہیں۔ (ترکی لفظ) الطُغرانی: ایسی علامت بنانے والا۔

○ طُغراء: مونوگرام۔ ریاستی دستاویزات اور سکّے۔

طغم: ا۔ تَطَغَّمَ علیه: کے بارے میں جاہل بننا۔ الطُغمَةِ جمع طُغمَات و طُغَم جتھا، ٹولہ، جمعیت، حلقہ، گروہ۔ الطَغم: سمندر، بہت پانی۔ الطَغام: (واحد طَغَامَة) کمینے لوگ (واحد جمع) اوباش، معمولی پرندے۔ الطَغَامَة: بے وقوف۔ الطُغومَة و الطُغومِيَّة: بے وقوفی، کمینگی۔

○ طَغام: عام لوگ، عوام، منکسر المزاج، عاجز، غیر اہم۔

۲۔ طَغمَشَ الرجُلُ: کمزور نظر ہونا۔ الیه: کی طرف کمزور نظر سے دیکھنا۔ صفت: مُطَغمِش۔

طغا: طَغا - طُغوًا و طُغوًا و طُغوَانًا: حد سے گزر جانا۔ البحرُ: سمندر کا جوش میں آنا۔ ـــ السیلُ: سیلاب کا چڑھ آنا۔ طَغَّى هُ: کو سرکشی پر اکسانا۔ أطغَى هُ: کو سرکشی پر اکسانا۔ ـــ هُ المالُ و نحوهُ: مال وغیرہ کا کسی کو سرکش بنا دینا۔ تَطَاغَى الموجُ: لہر کا جوش مارنا۔ الطَغوَة جمع طَغوَات: بلند جگہ۔ الطَغوى: طغا کا اسم۔ الطاغوت جمع طَوَاغٍ و طَوَاغِيت: ہر سرکش، گمراہ کرنے والا، شیطان، ہر باطل معبود۔ الطَوَاغِي و الطَوَاغِيت: بت خانے۔

○ طَغَا - طغوا و طَغِيَ - طَغيًا و طُغيَانًا: مناسب حدوں سے تجاوز کرنا، بڑھنا (سمندر کا) طوفانی یا طوفان خیز ہونا، ہنگامہ خیز ہونا، بہت زوروں کا ہونا، سخت تیز ہونا (دریا کا) کناروں سے باہر آ جانا، دریا میں سیلاب آنا۔ ـــ علی: سے چھلکنا، کناروں سے باہر آنا، کو زیر آب کرنا، غرق کرنا، سیلاب میں مبتلا کرنا، پر بھر مار کرنا، بوچھاڑ کرنا۔ علی: کو زیر کرنا، پر قابو پانا، کو قابو میں لانا، کو گرفت میں لینا، مٹھی میں لینا، پر واقع ہونا، پڑنا، پر ظلم و تشدد کرنا، پر دہشت طاری کرنا، سے سختی کا سلوک کرنا۔ طَغَى - علی: میں سب سے اہم، نمایاں یا سب پر فائق ہونا۔ میں رواج ہونا، عام ہونا، پر غلبہ یا تسلط کرنا، سے زیادہ اہم ہونا یا زیادہ بھاری یا وزنی ہونا، سے زیادہ وقیع ہونا۔

طغوان: سیلاب، طوفان، سیل۔ طُغیان: سیلاب، طوفان، سیل، ظلم، جور و استبداد، خاتمہ۔ دہشت گردی ـــ طاغ جمع طُغاة: ظالم حکمران، بے انصاف، ظالم، جابر، مستبد حاکم، مطلق العنان حاکم۔ طاغیة: بمعنی طاغ نیز غنڈا، بے حس، ظالم، جنگلی، بن مانس، گوریلا۔

طغی: طغا و طَغِيَ - طَغيًا و طُغيَانًا و طغيانا: بمعنی فعل طغا (و' والا) -- الکافرُ: کافر کا کفر میں غلو کرنا۔ عام لوگ کہتے ہیں طَغَاهُ الشیطان: شیطان نے اسے بھلائی کے راستہ سے دور کر دیا۔ الرجُلُ: ظلم و نافرمانی میں حد سے گزر جانا۔ الماءُ: پانی کا بلند ہونا۔ طَغَّى و أطغَى فلانًا: کو سرکشی پر اکسانا، کو سرکش بنانا۔ الطَغيَة: ایک بار کی سرکشی یا شرارت، سرکش گھوڑا وغیرہ، پہاڑ کی چوٹی، ہر بلند جگہ۔ الطَاغِي (فا) جمع طُغَاة و طَاغُون: ظالم۔ الطَاغِيَة: الطاغی کا مونث، جبار، متکبر، سرکش، بیوقوف، بجلی، رومی بادشاہوں کا لقب، غالبًا عربوں نے یہ نام غیر عربوں کا رکھا تھا۔

طف: ا۔ طَفَّ - طَفًّا الشیءُ منه: کے قریب ہونا۔ طَفَّ المکیالَ: پیمانہ کو تھوڑا سا کم بھرنا۔ به موضع كذا: کو دھکیل کر کسی جگہ کے قریب کرنا۔ أطَفَّ له: کو دھوکا دینے کا ارادہ کرنا کی کوشش کرنا۔ علیه: پر مشتمل ہونا۔ استَطَفَّتِ الحاجةُ: ضرورت کا پورا ہونا۔ الطَف جمع طُفُوف: کنارہ، پہلو، ساحل، گھر کا صحن، دامن کوہ۔ طَفَافُ الشمسِ: سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا کہا جاتا ہے۔ اتانا عند طفاف الشمس: وہ ہمارے پاس سورج کے غروب ہونے کے وقت کے قریب آیا۔ الطَافَة: باغ کا گرداگرد، پہاڑوں اور میدان کے درمیان قطعہ زمین۔ الطفیف: نامکمل، ناقص، غیر اہم، بہت تھوڑا، ناقابل اعتناء۔

۲۔ طَفَّ - طَفًّا الحائطَ: دیوار پر چڑھنا۔ هُ برجله او بیده: کو پاؤں یا ہاتھ سے اٹھانا۔ أطَفَّ علیه: پر جھانکنا۔ أطَفَّ الکیلَ: پیمانہ بھرنا۔ علیه بحجر: کو پتھر مارنے کے لئے اٹھانا۔ أطَفَّ له السیفَ: تلوار کی طرف جھکانا۔ استَطَفَّ علیه: کو اوپر سے جھانکنا۔ الطَفُّ (مص) جمع طُفُوف: اونچی زمین۔ ـــ و الطَفَف و الطَفَاف و الطِفَاف و الطُفَافة من الاناء: برتن کا کنارہ، پیمانے سے فالتو یا بقیہ۔ اناءٌ طَفّان: کناروں تک یا اوپر تک بھرا ہوا برتن۔

۳۔ طَفَّفَ علی عِیالِه: بال بچوں پر بخل و کنجوسی کرنا۔ الطَفِیف: تھوڑا، حقیر، خسیس معمولی، گھٹیا۔

۴۔ طَفَفَفَ الطائرُ: پرندہ کا باز و پھیلانا۔

۵۔ الطَفّ و الطَفَّاف من الخیل: چست و سبک اور تیز رفتار گھوڑا۔ الطفَاف و الطِفاف: رات کی تاریکی۔

۶۔ طَفطَفَ طَفطَفَةً: دشمنوں کے ہاتھوں میں ڈھیلا ہونا، جب کوئی شخص ایسے منصب پر فائز ہو جائے جس کا وہ مستحق نہ ہو تو عوام کہتے ہیں۔ هو يطفطف علیه۔ الطَفطَفَة (مص) جمع طَفَاطِف و الطِفطِفَة: کمر، ڈھیلا اور متحرک گوشت۔ الطَفطَاف: پہلو، ساحل، درخت کی تر و تازہ، نرم شاخیں۔

○ طَفَّفَ هـ: کو ناقص یا ناکافی بنانا۔ علی: کے حق میں کنجوس ہونا، پر بہت تھوڑا خرچ کرنا کو تھوڑا دینا۔ طفیف: ناقص، کم، معمولی، غیر اہم، معمولی، یونہی سا، بہت ہی کم، ناقابل اعتناء۔ تطفیف: کنجوسی کرنا، کنجوسی بخل، جزرسی، از حد کفایت شعاری۔

طفی: طَفِيَ - طُفُوءَ ات النارُ: آگ کا بجھنا۔ ـــ ت عینهُ: آنکھ کا بے نور ہونا۔ أطفاء النارَ: آگ بجھانا۔ کہا جاتا ہے: أطفَأَ الفتنةَ او الحربَ: اس نے فتنہ یا لڑائی کو فرو کر دیا۔ انطفأ انطفاءً تِ النارُ: آگ بجھ جانا۔ الاطفانی جمع اطفانیون: آگ بجھانے والا۔ الاطفائیة: آگ بجھانے والا محکمہ۔ مُطفِئُ الجَمرِ: ایام عجوز کا چوتھا یا پانچواں دن۔ مُطفِئُ الرَضفِ: مصیبت۔ مُطفِئَةُ الرضف: چربی جو گرم پتھر پر پڑے تو پگھل جائے اور اس کی گرمی دور کر دے۔ المِطفَاة جمع مَطَافِئ: آگ بجھانے کا آلہ۔

○ أطفَأ النورَ: روشنی بجھانا۔ العطشَ: پیاس بجھانا۔ الکِلسَ: چونا بجھانا، چونا پانی میں بجھانا۔ أطفَأ جَذوَةَ یومِهِ و أحرَقَ فَحمَةَ لیله فی العمل: دن رات، کام کرنا۔ انطَفَأ بمعنی طَفِئَ۔ طَفَّایة: آگ بجھانے کا آلہ۔ مِطفَاة جمع مطافی: آگ بجھانے کا سامان، آگ بجھانے والا آلہ، آگ بجھانے والا انجن Fire engine - Fire extinguisher اطفاء: آگ بجھانا۔ جِهازُ اِطفاءِ الحریق: آگ بجھانے کا سامان۔ رِجالُ الاطفاء: آگ بجھانے کا محکمہ، آگ بجھانے والے۔ فائر مین Fire men رجال المطافی: آگ بجھانے کا محکمہ، آگ بجھانے والے۔ Fire men عملیات الاطفاء: آگ بجھانے کی کارروائیاں۔ اطفائیة: آگ بجھانے کا محکمہ۔ مُطفَأ: بجھا ہوا، پھیکا، مدہم، بے رونق، گند، پھیکا، ہلکا، بے لطف، بے کیف، سپاٹ۔

طفح: ا۔ طَفَحَ - طَفحًا و طُفوحًا الاناءُ: برتن کا بھر کر کناروں سے بہنا۔ الاناءَ: برتن کو بھرنا (لازم و متعدی) ـــ السکرانُ: مخمور کا شراب سے پُر ہونا۔ ـــ ت المرأةُ بالولد: عورت کا پورے دنوں کا بچہ جننا، کہا جاتا ہے۔ اِطفَح عنّی: میرے پاس سے چلے جاؤ۔ طَفَّحَ و أطفَحَ الاناءَ: برتن کو اتنا بھرنا کہ کناروں سے بہنے لگے۔ اِطَّفَحَ القِدرَ: ہانڈی کے جھاگ نکالنا۔ الطَفاح: پُری، بھرائی۔ الطُفَاحَة: ہانڈی کے جھاگ۔ الطفحان م طفحی: کناروں سے بہنے

والا۔الطافحة: الطافح کا مونث۔ فرسٌ طَفَّاحُ
القوائم: بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا۔المطفحة:
کفگیر۔

۲۔ طَفِحَ ۔طَفْحًا و طُفُوحًا الرجلُ: غشی کھانا (عام
زبان میں)

۳۔ الطفحان م طفحانة: بیوقوف، ست (عام زبان
میں) الطَافِحة: خشک۔

○ طَفَحَ ۔طَفْحًا و طُفُوحًا ب: کیساتھ کناروں سے
بہنا۔طَفَّحَ ہ: (برتن کو) کناروں تک بھرنا، لبالب
بھرنا۔أَطْفَحَ بمعنی طَفَّحَ ۔ طَفْح: از حد بہتات،
وفور، بھرا ہونا یا بھرنا، جلد کی پھنسی، سرخ باد۔طَفْحة:
جلد کی پھنسی، سرخ باد۔طُفْحِي: پھوٹ نکلنے والا، سرخ
باد کا۔طُفُوح: از حد بہتات، وفود، بھرا ہونا، بھرنا۔
طُفاحة: جھاگ، کف۔طفحان م طفحی:
کناروں سے بہتا ہوا، لب لب بھرا ہوا، لب لب۔
مِطْفَحة: کفگیر۔طافِح: کناروں سے بہتا ہوا، لبالب،
کناروں تک بھرا ہوا، اتنا بھرا ہوا کہ کناروں سے بہتا ہو۔

طفذ: طَفَذَ ۔طَفْذًا الميتَ: میت کو دفن کرنا۔
الطَفْذ و الطفذ جمع أَطْفاذ: قبر۔

طفر: طَفَرَ ۔طَفْرًا و طُفُورًا: کودنا، پھاندنا۔طَفَّرَ
اللبنُ: دودھ کا بالائی والا ہونا۔ ـــ الفرسَ النهرَ:
گھوڑے کو ندی کودانا۔أَطْفَرَ الفرسَ النهرَ:
گھوڑے کو ندی کودانا۔الطَّفرة: کود، پھاند ـــ عند
العامة: بدن پر نکلنے والی پھنسیاں ـــ من اللبن:
بالائی، ملائی۔الطَّفْران عند العامة: جس کے پاس
مال نہ ہو، مفلس۔

○ طَفَرَت جَوانِحُها: عورت کا سینہ مسرت آمیز
اضطراب سے، زور سے اونچا نیچا ہوا۔طَفْرة: کود،
پھاند، اضطراری حرکت، جوش، تندی، تیزی، کامیاب
قدم۔طَفْرَةً: ایک جست میں۔طَفْرَان: کنگال،
محتاج مفلس۔طَفَر: گھوڑے کا پٹھا۔

طفس: طَفِسَ ۔طَفَسًا و طَفَاسَةً: گندا ہونا۔صفت
طَفِس طَفَسَ ۔طُفُوسًا الرجلُ: مرجانا۔

طفق: طَفِقَ ۔طَفَقًا و طُفُوقًا يفعلُ كذا: کچھ کرنے
لگنا۔الموضعَ: جگہ پر رہنا۔
طَفَقَ ۔طَفْقًا و طُفُوقًا يفعل كذا: کچھ کرنے لگنا۔
بـمـراده: مراد میں کامیاب ہونا اپنی مراد کو پالینا۔
أَطْفَقَ ہُ بمراده: کو اسکی مراد میں کامیاب کرنا۔

○ طَفِقَ ۔طَفْقًا يفعل كذا: کچھ کرنا شروع کرنا، کچھ
کرنے لگنا، اچانک کچھ کرنا۔

طفل: ۱۔ طَفُلَ ۔طُفُولَةً و طَفَالَةً: نرم ونازک اور
پروردہ ناز ونعمت ہونا۔طَفَّلَ ہُ: سے نرمی کرنا۔ طفل
الراعی الابلَ: چرواہے کا نرمی سے اونٹوں کو ہانکنا
تاکہ ان کے بچے ان سے آملیں۔أَطْفَلَت الأنثی:
عورت کا چھوٹے بچے والی ہونا۔تَطَفَّلَ: بچوں کی سی
عادت اختیار کرنا۔الطَفل جمع طِفال و طُفول م
طَفْلَة: ہر نازک ونرم شئے۔الطِفل جمع أَطْفال م
طِفْلَة: ہر چیز کا چھوٹا کہا جاتا ہے۔هو يسعى لي في
اطفال الحاجات: وہ میری چھوٹی موٹی ضرورتوں
کے سلسلہ میں مشغول رہتا ہے۔کہا جاتا ہے: جاريةٌ
طِفلٌ و طِفْلَةٌ: چھوٹی لڑکی کبھی طفل واحد اور جمع کے
معنی دیتا ہے کیونکہ وہ اسم جنس ہے ہر وحشی جانور کا بچہ۔
ريحٌ طَفْلٌ: نرم چلنے والی ہوا۔الطفل (مص): بچپن
(کی حالت)۔الطُفولِيَة و الطَفالة و الطُفُولَة:
بچپن۔المُطفِل جمع مَطافِل: بچہ والی (انسان یا جانور
میں سے) کہا جاتا ہے: لَيلَةٌ مُطْفِل: سرد رات جو
بچوں کی موت کا باعث ہو۔

۲۔ طَفَلَ ۔طُفُولاً: تاریکی میں داخل ہونا۔ ـــ ت
الشمسُ: سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔
طَفَلَ الليلُ: رات کا نزدیک آنا۔ ـــ ت الشمسُ:
سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔أَطْفَلَ:
تاریکی میں داخل ہونا۔ت الشمسُ: سورج کا غروب
کے وقت سرخ ہونا۔الطِفْل: رات، غروب ہونے
کے قریب سورج۔ الطَفَل: تاریکی، اندھیرا۔طَفَلُ
الغداةِ: طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد۔العشيّ:
غروب آفتاب کے تھوڑی دیر پہلے۔

۳۔ طَفَلَ ۔طَفلاً و طُفِلَ النباتُ: مٹی لگنے سے
پودے کا نہ بڑھنا۔

۴۔ طَفَّلَ الرجُلُ: طفیلی ہونا۔تَطَفَّلَ: طفیلی ہونا۔
الطُفَيْلي: بن بلائے دعوت میں آنے والا (ن ح)
طفیلی پودا یا کیڑا Parasite (جو دوسرے پودوں یا
کیڑوں پر گزارہ کرتے ہوں)

۵۔ طَفَّلَ الكلامَ: بات سوچنا۔أَطْفَلَ الكلامَ: بات
سوچنا۔

۶۔ الطَفَل: حاجت، ضرورت، چنگاری، کہا جاتا ہے۔
تطايرت أطفالُ النار: چنگاریاں ہر طرف اڑیں۔
الطُفال و الطَفال: خشک گارا۔الطَفِيل: تالاب
میں بچا ہوا گدلا پانی۔

○ طَفَّلَ علي: کے سر پر زبردستی جا کر مسلط ہونا، کے سر پر
سوار ہو جانا، کے معاملہ میں خواہ مخواہ دخل دینا، پر بوجھ
بننا، طفیلی ہونا۔على مائدته: دوسرے کے خرچ پر
زندگی بسر کرنا۔تَطَفَّلَ على بمعنی طَفَّلَ علی۔تطفّل
بن بلائے آنا، بے وقت آنا، خلل ڈالنا، کے سر پر سوار
ہو، خواہ مخواہ دخل دینا۔طِفل جمع اطفال: شیر خوار بچہ،
ننھا منا بچہ، گود کا بچہ، دودھ پیتا بچہ۔طِفلة: بچی۔
طَفْل: نرم ونازک، کمہار کی چکنی مٹی۔طِفْلِي: بچہ کا،
بچوں کا، بچپن کا، بچوں کا سا، طفلانہ۔طَفَل: ایام طفلی
(عالم) شیر خوارگی (عالم) طفولیت، بچپن، بچپن کا
مرحلہ۔طَفْلة: کمہار کی چکنی مٹی۔طُفال: چکنی مٹی،
کمہار کی چکنی مٹی، نباتاتی کھاد والی زرخیز مٹی۔طَفالة:
شیر خوارگی، بچپن، بچپن کا مرحلہ، ابتدائی مرحلہ،
شروعات، طلوع سحر، ابتدائی عرصہ۔طُفُولة: شیر
خوارگی، بچپن، ابتدائی بچپن، بچپن کا مرحلہ۔طُفُولية:
شیر خوارگی، بچپن، بچپن کا مرحلہ۔طُفُولي: بچہ کا، بچپن
کا یا شیر خوارگی کا یا کے متعلق، بچوں کا سا، طفلانہ۔
طُفَيْلي: ناخواندہ مہمان، مداخلت کرنے والا، سر پر
سوار ہونے والا، زبردستی سر پر سوار ہونے والا، طفیلی،
مفت خورہ، طفیلی پودا یا کیڑا، بے حد خوشامدی، چاپلوس،
ٹوڈی۔علم الطُفَيليات: طفیلی پودوں یا کیڑوں کا
علم۔مُتَطَفِّل: طفیلیانہ، طفیلی، مفت خورہ، ناخواندہ
مہمان۔

طفن: طَفَنَ ۔طُفُنًا: مرنا۔ ـــ ہُ: کو قید کرنا۔اطْفأنَّ
المكانُ: جگہ کا قابل اطمینان ہونا۔ ـــ الرجلُ:
اچھی عادت والا ہونا۔اطفاتين: جھوٹ، لغو، بیہودہ
گفتگو، قید۔

طفا: ۱۔ طَفَا ۔طُفُوًّا و طُفُوًّا: پانی کے اوپر تیرنا اور پانی
میں نہ ڈوبنا۔ السمكُ الطافي: پانی میں مرنے اور
اس پر تیرتی رہنے والی مچھلی۔ ـــ الظبيُّ: ہرن کا تیز
دوڑنا۔ ـــ فوق الفرس: گھوڑے پر کود کر سوار ہونا۔
الطفاوة: ہانڈی کا جھاگ وغیرہ (کہا جاتا ہے۔اصبنا
طفاوة من الربيع: ہمیں موسم بہار کا کچھ حصہ ملا) سورج
یا چاند کا ہالہ۔الطُفْوَة: کمزور اور پتلا پودا۔

۲۔ طَفَا ۔طُفُوًّا و طُفُوًّا فلانٌ: مرنا۔ ـــ في الارض:
زمین میں داخل ہونا۔

۳۔ الطُفْيَة جمع طُفًى (ح): ایک زہریلا سانپ۔

○ طَفَا ۔طُفُوًّا و طُفُوًّا: تیرنا، بہے چلے جانا، ظاہر ہونا،
سطح پر آنا۔طفا به الى السطح: کو سطح پر لانا۔طُفاوة:
کوئی تیرتی یا بہتی چیز، جہاز کا سمندر میں تیرتا ہوا مال،
جہاز کے تیرتے ہوئے ٹکڑے، ہالہ (سورج یا چاند کے
گرد) طافٍ: سطحی، اوپری (Super ficial)
طافِيہ: تیرتا ہوا برفانی تودہ (Floating ice
berg)

طق: ۱۔ طَقّ: پتھر پر پتھر کے گرنے کی آواز۔

۲۔ طَقْطَقَ طَقْطَقَةً الدوابُّ: جانوروں کا پاؤں سے آواز نکالنا۔

○ طَقَّ ۔ طَقًّا: بھک کرنا، بھک سے اڑنا، تڑخنا، کڑکڑ کرنا، کھٹ کھٹ کرنا، پھڑ پھڑانا، پھٹنا، پھوٹنا، پھٹ کر اڑ جانا، دھماکے سے پھٹنا۔

طقس: الطَقْس جمع طُقُوس: طریقہ خصوصاً مذہبی طریقہ، رسم ـــــ عند العامة: موسم، آب وہوا (یونانی لفظ) الطَقسوس (ن): ایک قسم کا درخت۔

○ طَقَّسَ: عسائیوں کی دعاؤں کی کتاب میں لاکر رکھنا۔ تَـطَـقَّـسَ: مذہبی رسوم ادا کرنا، مذہبی رسوم پر چلنا۔ طـقـوس: رسم، رسومات، مذہبی رسم، پادریوں کا ایک منصب۔ طَـقْـسـی: عیسائیوں کی نماز کے متعلق۔ الـطقسات: عیسائیوں کی نماز کی کتابیں۔ طَقْطَقَ: تڑخنا، تُراقے سے نکلنا یا بند ہونا، کھڑکھڑ کرنا، جھن جھن کرنا، کھڑکھڑانا، چھک چھک کرنا، بھک کرنا، دھماکہ سے ٹوٹنا، چٹخنا، چڑچڑانا، سرسرانا۔

○ طَقَّمَ ہ: (گھوڑے) کو جوتنا، لگام دینا۔ طَقْم جمع طُقُوم و طُقُومَةً و أَطْقُم: بہت سی امدادی اشیاء، سلسلہ، سوٹ، جوڑا (کپڑوں کا) سیٹ (اوزاروں وغیرہ کا) گھوڑے کا ساز ویراق۔ طـقـم الاسـنـان: (مصنوعی) دانتوں کا چوکا یا سیٹ۔ طَاقِم بمعنی طَقْم نیز (جہاز کا) عملہ۔ طـاقـم الاسـنـان: (مصنوعی) دانتوں کا چوکا یا سیٹ (Denture)

طلّ: ا۔ طَلَّ ۔ طَلاًّ الغَرِيمَ: قرض خواہ کو ٹالنا۔ ہٗ حقَّہ: کو اس کا حق بہت کم دینا یا حق مار لینا۔ وَطُـلَّ طَلاًّ الـدمُ: خون رائیگاں جانا، خون کا انتقام نہ لیا جانا۔ صفت طلیل و مَطْلُول۔ أَطَلَّ على حقي: میرے حق پر غالب آنا۔ الـدمَ: خون بغیر قصاص کے چھوڑ دینا، کہا جاتا ہے۔ أَطَلَّ على فلان بالاذى: کو مسلسل ایذا دینا۔ اُطِلَّ الدمُ: خون بغیر قصاص کے چھوڑا جانا صفت مُطَلّ الطلاء: بے بدلہ خون۔

۲۔ طَـلَّ ۔ طَلاًّ تِ الـسـمـاءُ الارضَ: آسمان کا شبنم برسانا۔ الطَلّ (مص) جمع طِلال و طِلل: تھوڑی سی بارش، شبنم، نمی۔ الـطَلَّة: اسم مرہ، شبنم کا تر کیا ہوا باغ۔ الـمَـطْـلُول (مفع) من الاماکن: شبنم پڑنے والی جگہ۔ المُطَلِّل: کہر۔

۳۔ طَلَّ ۔ طَلاًّ ہٗ بـالـدهن: کو تیل کی مالش کرنا، پر تیل لگانا۔ طَلَلُ السـفـينةِ: کشتی کا پردہ۔

۴۔ طَلَّ ۔ طَلاًّ الابلَ: اونٹوں کو تیز ہانکنا۔

۵۔ طَلَّ ۔ طَلالَةً الشـيءُ فلانًـا: کو حیران کرنا، کو پسند آنا۔ الـطَـلّ: خوبصورت، قابل ستائش۔ الـطَـلَّة: الطَلّ بمعنی خوبصورت قابل ستائش کا مونث، دل پسند خوشبو، لذیذ شراب، بیوی، خوراک اور لباس میں کثرت۔ الطَلالَة (مص): اچھی حالت، خوبصورتی، شادمانی۔

۶۔ أَطَلَّ الزمانُ: زمانہ کا قرب ہونا۔ ـــ عليه: کو اوپر سے جھانکنا۔ تَطَالَّ: دور کی چیز دیکھنے کے لئے گردن اونچی کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ تـطـاللتُ لـهٗ: میں نے دور سے اسے دیکھنے کے لئے اپنی گردن اونچی کی۔ اسْـتَـطَـلَّ عـلـيه: کو اوپر سے دیکھنا۔ الـفـرسُ ذَنَبَه و بذنبه: گھوڑے کا اپنی دم کھڑی کرنا۔ الـطُـلَّة جمع طُـلَـل: گردن۔ الـطَـلَل جمع أَطْلال و طُـلُول: اونچی جگہ، کھنڈرات، ہر چیز کا جسم، کہا جاتا ہے۔ اعـجـبـنـی طَـلَـلُـهُ راقـنـی هيكلُهُ: مجھے اس کا جسم اچھا لگا۔ من الدار: گھر کا چبوترہ۔ طَـلَلُ الماء: پانی کی سطح، کہا جاتا ہے۔ مشى على طللِ الماء: وہ پانی کی سطح پر چلا۔ الطَلالَة: ہر چیز کا جسم، کھنڈرات۔ الـمُـطَلّ: بلند جگہ جہاں سے نیچے دیکھا جائے۔

۷۔ الطَلّ: بڑی عمر والا امرد (ح) سانپ۔ ـ والطُلّ: دودھ، خون، اونٹنی کے دودھ کی قلت۔ الطِلّ (ح): سانپ۔ الـطُـلَّة جمع طُـلَـل: ایک مرتبہ دودھ پینے کی مقدار۔ الطَلِيل جمع طِلَّة و أَطِلَّة و طُلُل: پرانی چٹائی۔

۸۔ طَلْطَلَ ہٗ: کو ہلانا۔ الـطُـلَـطِل و الطُلَطِلة: مصیبت۔ الـطُـلاطِـل: موت، سخت بیماری۔ الـطُـلاطِـلة: مصیبت، موت، حلق کا کوا، عام لوگ اس کو طَـنْـطَـلَة: کہتے ہیں۔

○ طَـلَّ ۔ طَلاًّ ہ: (زمین پر) خصوصاً آسمان کا، چھڑکاؤ کرنا، پر (آسمان سے) پھوہار پڑنا، ترشح ہونا (آسمان کا) کو شبنم سے تر کرنا، (آسمان سے زمین) پر اوس پڑنا۔ طَـلَّ ۔ ظاہر ہونا، اٹھنا، دھندلا سا اور بڑا دکھائی دینا، نظر آنا، ظاہر ہونا، معلوم ہونا، لگنا۔ اَطَلَّ على: کو اوپر سے دیکھنا، سے کہیں بلند ہونا، کسی اونچی جگہ سے کسی جگہ کا نظر آنا (کمرے کھڑکی وغیرہ کا) پر یا کی طرف کھلنا۔ اطـلَّ من: سے آہستہ آہستہ، ذرا سا نکلنا، سے باہر دیکھنا، ظاہر ہونا، نظر آنا۔ طَـلَـل جمع اطـلال: کھنڈرات، آثار، باقیات۔ دم مـطلول: خون جس کا انتقام نہ لیا گیا ہو۔

طلب: ا۔ طَلَبَ ۔ طَلَبًا الشيءَ: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، طلب کرنا۔ الـيه: کی طرف راغب ہونا (مولدین کے نزدیک) طلـبـه الى المبارزة: کو مقابلہ میں بلانا۔ بـدم فـلان فـلانًـا: کا سے انتقام لینے کا ارادہ کرنا۔ فلانةً: سے منگنی کرنا، عام لوگ کہتے ہیں۔ طـلـبها من ابيهـا فطَلَّبَه اياها: یعنی اس نے لڑکی کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا جو اس نے منظور کرلیا۔ طَـلَّبَ الشيءَ: کو مہلت دے کر مانگنا۔ طـالَـبَ طِلاباً و مُطَالَبَةً ہٗ: سے اپنا حق طلب کرنا۔ اسـم الـطَـلَـب اور الطِلْبَة۔ أَطْلَبَ ہٗ: کو مانگنے کے لئے مجبور کرنا (کہا جاتا ہے۔ أطـلـبه الفقرُ: یعنی تنگدستی نے اسے مانگنے پر مجبور کردیا) کو وہ چیز دینا جو اس نے مانگی ہو (ضد)۔ تَـطَـلَّـبَ و اِطَّـلَـبَ الشيءَ: کو بار بار تکلف سے مانگنا۔ الـطِلب جمع أَطْلاب و طِلَبَة: مانگی ہوئی چیز، طلب کرنے والا۔ الـطِـلْـبَة: مطالبہ کا اسم، مانگنے کی نوعیت۔ و الطَلِبَة: مانگی ہوئی چیز۔ الطَلْبَة: اسم مرۃ، ایک دفعہ کا مانگنا، مخصوص دعا جیسے طلبة العـذراء: حضرت مریم کی دعاء۔ الـطـالب (فا) جمع طَلَبَةٌ و طُلَّاب و طَـلَـب و طُـلَّـب: طالب علم شاگرد۔ الـطُـلُوب جمع طُـلُب و الـطَلِيب جمع طُلَباء و الـطَـلَّاب: بہت طلب کرنے والا، بہت تلاش کرنے والا۔ الـطَلِيبَة جمع طَلائِب: الـطليب کا مونث۔ المَطْلَب جمع مَطَالِب: مطلب، مقصد، مسئلہ۔ فنکار کا موضوع۔ المَطْلُوب (مفع) جمع مَطَالِيب: حق وغیرہ، جو طلب کیا جائے (ع ح) دیکھئے القرض۔

۲۔ طَلِبَ ۔ طَلَبًا: دور ہونا۔ أَطْلَبَ الماءُ: پانی کا دور ہونا اور بغیر مانگے حاصل نہ ہونا۔ الطُلْبَة: دور کا سفر۔ بئر طُلُوب: گہرا کنواں۔ ماءٌ مُطْلِبٌ: دور کا پانی۔

○ طَلَبَ ۔ طَلَبًا و مَطْلَبًا ہ / ہ: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ ـــ ہ: کے لئے روانہ ہونا، کی راہ لینا۔ ـــ ہ / ہ: کو ملنے یا دیکھنے جانا۔ ـــ ہ: کی استدعا کرنا، کی درخواست دینا۔ ہ من: کو سے لینے کی کوشش کرنا، سے کا مطالبہ کرنا۔ ـــ مـن ہ: سے کوئی چیز مانگنا، سے کسی چیز کا سوال کرنا۔ اِلی ہ: سے کا مطالبہ کرنا۔ ـــ ہ من: سے کچھ چاہنا۔ اِلی أن: سے چاہنا کہ وہ کچھ کرے۔ اِلی: سے تقاضا کرنا، اپیل کرنا، کو مدعو کرنا، سے درخواست کرنا، التماس کرنا، التجا کرنا، کی منت سماجت کرنا۔ ـــ ہ مـن: سے کچھ طلب کرنا، مانگنا۔ ـــ ہ: کی تلاش میں ہونا، کی جستجو کرنا۔ طـالَـبَ ہ ہ / ب: سے کچھ واپس طلب کرنا، سے کی واپسی کی درخواست کرنا۔ ـــ ہ ہ / ب: سے کا مطالبہ کرنا۔ ب: کا مطالبہ کرنا۔ تَطَلَّبَ ہ: کا مطالبہ کرنا، کو ضروری اور مطلوب بنانا۔ طَـلَـب: تلاش، جستجو، تعاقب، جمع طَـلَـبـات: مطالبہ، دعوی، دعوت، درخواست، خواہش، تمنا، آرزو، التماس، التجا، حکم، آرڈر، کمشن، طلب، (تجارت میں)۔ تـحـت طلـبه: کے ہاتھ میں، کے سپرد، کی تحویل میں۔ عند

الطلب اور لدی الطلب: مطالبہ پر، بذریعہ درخواست، اگر خواہش ہو، استدعا پر، درخواست پر۔ العرض و الطلب: رسد وطلب Supply and demand طلب العلم: جستجوئے علم و معرفت، شوق مطالعہ۔ طلب عدم الثقة: عدم اعتماد کی قرارداد یا تحریک طلبۃ: نماز، عیسائیوں کی سنگت والی دعا۔ طَلَبِیۃ جمع طلبیات: آرڈر Order، کمشن (Commision) (تجارت) مطلب: تلاش، جستجو، تعاقب جمع مطالب۔ مطالبہ، درخواست، خواہش، دعویٰ، مشکل، مسئلہ جمع مطالب: (حکومت کے مطالبات، ٹیکس taxes) طالب جمع طُلّاب و طَلَبة: متلاشی، تعاقب کرنے والا، دعویدار، مدعی، درخواست دہندہ، عرضی دعویٰ پیش کنندہ، امیدوار، طالب علم، طالب العلم، شاگرد، بحری فوج کا ایک منصب جہاز کا نوجوان، زیر تربیت افسر Midshipman طلّابُ الحاجات: درخواست گزار لوگ۔ طالبُ الزواج: شادی کی درخواست کرنے والا۔ مطلوب: (اشتہارات میں) ضرورت ہے Wanted، واجب الادا (Due) نامعلوم (مقدار) مَطَالِیب: خواہش، آرزو، تمنا۔ مطلوبات: ذمہ داریاں، قرضے۔ مطالیب: دعوے۔ مُتَطَلَّبَات: ضروریات Requirements۔

طلث: طَلَثَ - طُلُوثًا الماءُ: پانی کا بہنا۔ طَلَثَ علی كذا: سے زیادہ ہونا۔ الطُلُثَة: ضعیف العقل اور ضعیف البدن جاہل۔

طلح: ا۔ طَلَحَ - طَلْحًا و طَلَاحَةً البعيرُ: اونٹ کا تھکا ماندہ ہونا، صفت طَلْح و طِلْح و طَلِيح۔ ـــ البعيرَ: اونٹ کو تھکانا۔ طَلِحَ - طَلَحًا: خالی پیٹ ہونا، صفت طَلِيح و طَلِح و طِلْح۔ ـــ البعيرَ: اونٹ کو تھکانا۔ طَلَحَ: خالی پیٹ ہونا۔ صفت طَلِيحٌ و طَلْحٌ و طِلْحٌ۔ طَلَّحَ البعيرَ: اونٹ کا تھکنا۔ أَطْلَحَ البعيرَ: اونٹ کو تھکانا۔ الطِلح جمع أَطْلَاح و طِلَاح: تھکا ہوا، لاغر کہا جاتا ہے: بعيرٌ طِلْحٌ و ناقةٌ طِلْحٌ: لاغر اونٹ اور لاغر اونٹنی۔ ناقةٌ طَالِحٌ و ابلٌ طُلَّحٌ: تھکی ہوئی اونٹنی اور تھکے ہوئے اونٹ۔ ابل طلاحٌ: سفر سے تھکے ہوئے اونٹ۔ الطَلِيح: تھکا ہوا لاغر (کہا جاتا ہے: بعيرٌ طَلِحٌ و ناقةٌ طَلِيح و طليحة جمع طَلَائِح و طَلْحَى: لاغر اونٹ اور لاغر اونٹنی۔)

۲۔ طَلَحَ - طَلَاحًا: خراب ہونا، فاسد ہونا۔ الطالِح (فا) جمع طَالِحُون و طُلَّح: شریر، فسادی، بدکار۔

۳۔ طَلِحَ - طَلَحَتِ الابلُ: ببول کھانے سے اونٹوں کے پیٹ خراب ہو جانا۔ الطَلْح (واحد طَلْحَة) (ن) ببول کا درخت، کیلا۔ مكانٌ طَلِح م طَلِحَة: وہ جگہ جہاں ببول کے درخت بکثرت ہوں۔ الطِلاح (ن): کیکر کا درخت۔

۴۔ طَلَّحَ علی فلان: سے اصرار کرنا، پر زور دینا۔

۵۔ الطَلْح: (واحد طَلْحَة) کھجور کا گابھا، شگوفہ۔ الطِلْح (ح): چیچڑی۔ الطَلَح: نعمت، کہا جاتا ہے۔ هو في طَلْح: وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے۔ الطَلِيح (ح): چیچڑی، چچڑ۔ الطِلْحِيَّة جمع طَلَاحِيّ: کاغذ کا ایک ورق۔ عام لوگ طرحیۃ کہتے ہیں (آرامی زبان کا لفظ) المُطَلِّح في المال: ظالم۔ في الكلام: بدگو، مفتری۔

ب۔ طَلَحَ - طَلَاحًا: برا ہونا یا ہو جانا، بد ہونا یا ہو جانا، بد اعمال ہو یا ہو جانا، آوارہ ہونا یا ہو جانا، فاسق، فاجر اور بدکار ہونا یا ہو جانا۔ طَلْح: اسم جنس، واحد طلحة: جمع طُلُوح: ببول، کیکر، کیلے کا درخت، کیلا۔ طَلْحِيَة: جمع طَلَاحِي: کاغذ کا ایک ورق Sheet of paper طَلِيحَه: رم Ream of paper (جو صحیح تو 480 لیکن عموماً 500 کاغذ کے ورقوں پر مشتمل ہوتا ہے)۔ طَالِح: برا، بد، بد اعمال، آوارہ، فاسق، فاجر، بدکار، بہت برا۔

طلخ: ا۔ طَلَخَ - طَلْخًا الشيءَ: کو سیاہ کرنا۔ ـــ الكتابةَ: تحریر خراب کر دینا۔ فلانًا بالقذرِ: کو گندا کر دینا، پر دھبا ڈالنا۔ الطَّلْخ: گندہ پانی، خراب پانی۔

۲۔ اِطْلَخَّ الدمعُ: آنسو بہنا، بکھرنا۔

۳۔ الطَّلْخاء: بیوقوف عورت۔

۴۔ اِطْلَخَمَّ الرجلُ: تکبر کرنا۔ أُمورٌ مُطْلَخِمَّات: سخت امور۔

طلس: ا۔ طَلَسَ - طَلْسًا البصرُ: بینائی جاتی رہنا۔ ـــ الكتابةَ: تحریر مٹانا، عوام کہتے ہیں۔ طلسه بالدهان ونحوه: کو پینٹ سے ڈھکنا یا پر وارنش کرنا۔ (سریانی لفظ) أُطْلِسَ به في السجن: جیل میں ڈالا جانا۔ طَلَّسَ الكتابةَ: تحریر مٹانا۔ تَطَلَّسَ الكتابُ: خط کا مٹنا، محو ہونا۔ انْطَلَسَ الامرُ: بات یا معاملہ کا چھپنا۔ اِطْلَنْسَى اطْلِنساءً العَرَقُ: پسینہ کا تمام بدن پر بہنا۔ الطِلْسُ جمع أَطْلَاس: محو شدہ تحریر۔ الطَّلَّاسة: تختہ سیاہ پر لکھی ہوئی تحریر مٹانے کا کپڑا۔ الطَّلِيس: نابینا، اندھا۔

۲۔ طَلِسَ - طَلَسًا و طُلْسَ - طُلْسَةً: خاکستری رنگ کا مائل بہ سیاہی ہونا، صفت أَطْلَس جمع طُلْس۔ الطَّلَس: کالی چادر۔ الطِلْس جمع أَطْلَاس: میلا کپڑا۔ الطُّلْسَة (مص) جمع طُلَس: سیاہی مائل خاکستری رنگ، پتلا، بادل، ہلکا بادل۔ الأَطْلَس: بے بال، سیاہی مائل خاکستری رنگ کا بھیڑیا، پرانا کپڑا، میلا، چور۔

۳۔ تَطَلَّسَ و تَطَيْلَسَ الرجلُ: طیلسان پہننا۔ الطَيْلَس جمع طَيَالِس و الطَيْلَسان و الطَيْلِسان و الطَيْلُسان جمع طَيَالِس و طَيَالِسَة: سبز چادر جسے علما، مشائخ پہنتے ہیں۔ الأَطْلَس: ریشمی کپڑا۔

۴۔ طَلْسَمَ عن القتال: لڑائی سے، پیچھے ہٹنا۔ ـــ الرجلُ: سر جھکانا، منہ بگاڑنا۔ ـــ الساحرُ: جادوگر کا جادو کی لکیریں کھینچنا، منتر لکھنا۔ الطِلَسْم جمع طَلَاسِم و الطِلَّسْم جمع طِلَّسْمات: جادوگر کی لکیریں یا تحریر جس سے وہ موذی اثرات دور کرنے کا دعویٰ کرتا ہے (یونانی لفظ)۔

پ۔ طَلَسَ - طَلْسًا ہ: کو مٹانا، محو کرنا، کا نام و نشان مٹانا (خصوصاً تحریر مٹانا) طِلْس: مٹایا ہوا، محو کیا ہوا، جو پڑھا نہ جا سکے۔

أَطْلَس: ساٹن (Satin) جمع أَطَالِس: اٹلس (Atlas) (جغرافیائی نقشوں کی جلد) طَلْسَانَه: منڈیر Coping طَيْلَسان جمع طَيَالِسَة: چادر۔

طلع: ا۔ طَلَعَ - طُلُوعًا و مَطْلَعًا و مَطْلِعًا الكوكبُ ونحوه: ستارہ وغیرہ کا طلوع ہونا۔ و طَلَعَ - طُلُوعًا و طَلَّعَ النخلُ: درخت خرما کا پھوٹنا۔ أَطْلَعَ الكوكبُ: ستارہ کا طلوع ہونا، نمودار ہونا۔ ـــ الفجرَ: فجر کے طلوع کو دیکھنا۔ ـــ النباتُ: نباتات کا اگنا۔ النخلُ: درخت خرما کا شگوفہ نکالنا۔ الشجرُ: درخت کا پتے لانا، درخت کے پتے اگنا۔ ـــ ت النخلةُ: درخت خرما کا دراز ہونا۔ ـــ الرجلُ: قے کرنا۔ تَطَلَّعَهُ: کو دیکھنا۔ اطَّلَعَ الفجرَ: فجر کے طلوع ہونے کو دیکھنا۔ اِسْتَطْلَعَهُ: کے ظاہر ہونے کی خواہش کرنا۔ الطَّلْع مِن النخل (ز): کھجور کا گابھا، خوشہ۔ غبارُ الطَّلْع: زرگل (Potten) الطَّلْعَة: (اسم مرة) دیدار، چہرہ۔ امرأةٌ طُلَعَةٌ: متجسس عورت کہا جاتا ہے۔ نفسٌ طُلَعَةٌ: اپنی محبت کی طرف بہت زیادہ مائل نفس۔ الطُّلَعاء و الطُّوَلَع: قے۔ الطَّلِيعَة من الجيش جمع طَلَائِع: مقدمة الجیش۔ طَالِع (فا): ہلال، پہلی رات کا چاند، صبح کاذب۔ جمع طَوَالِع: زائچہ، جنم پتری۔ الطَّلُوع بمعنی طَالِع۔ الطُّلُوع جمع طُلُوعات: پھوڑا (عام زبان میں) المَطْلَع (مص) جمع مَطَالِع: ستاروں کے نکلنے کی جگہ، شعر کی ایک قسم

"زجل" کا ٹکڑا جو مُغنّی کہلاتا ہے۔ موسیقی کا پہلا حصہ۔ مطلع القصیدة: قصیدہ کا پہلا بیت۔ المَطْلِع (مص) جمع مَطالع (فلک): ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہ۔

۲۔ طَلَعَ ـُ و طَلِعَ ـَ طُلُوعًا الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ طلع الکیلَ: پیمانہ کو بھرنا۔ أَطْلَعَ الرامی: تیرانداز کا تیر نشانہ کے اوپر سے گزر جانا۔ علی الشیءِ: کو جھانکنا۔ تَطَلَّعَ المکیالُ: پیمانہ کا بھرنا۔ الماء من الاناءِ: پانی کا برتن کے کناروں سے چھلکنا۔ ـــــ الرجُلَ: کو پالینا، اور اس پر غالب آنا۔ الطِّلْع: مقدار، آپ کہتے ہیں۔ الجیش طلعُ الفٍ: لشکر کی مقدار ایک ہزار ہے۔ و الطِّلع: بلند جگہ۔ الطِلاع من الاناءِ جمع طُلُع: برتن کی لبالب پُری۔ طِلاعُ الشیءِ: چیز کی مقدار کہا جاتا ہے: هذا طِلاعُ هذا: یہ اسکی مقدار ہے یہ اس جتنی ہے۔ عینٌ طِلاعٌ: آنسوؤں سے بھری آنکھ۔ قدحٌ طِلاعٌ: بھرا ہوا پیالہ۔ الطلّاعُ: طالع کا اسم مبالغہ کہا جاتا ہے۔ هو طلّاعُ الثنایا و الأنجُدِ: وہ بڑے بڑے امور کا قصد کرنے والا ہے یا وہ کاموں کا تجربہ کار ہے اور ان کو بحسن وخوبی سرانجام دیتا ہے۔ المَطْلَع و المَطْلِع جمع مَطالع: سیڑھی، دیکھ بھال کرنے کی جگہ۔ المُطَّلِع (فا): قوی غالب آنے والا، بلند مرتبہ۔

۳۔ طَلَعَ ـُ و طَلِعَ ـَ طُلُوعًا علی الامر: امر کو جاننا، سے آگاہ ہونا۔ طالع مُطالَعَةً و طِلاعًا ہ: غور و فکر سے پر مطلع ہونا۔ الکتابَ: کتاب پڑھنا۔ ـــ ہُ بالامر: کو معاملہ پیش کرنا، کہا جاتا ہے۔ طالِعْنی کلَّ وقت بکُتُبِكَ: ہر وقت اپنی کتابیں مجھے پیش کرتے رہو۔ أَطْلَعَ ہُ طِلْعَ امرہ: کو حقیقت حال سے واقف کرنا۔ ـــ ہ علی سِرِّہ: کو اپنے بھید سے واقف کرنا۔ تَطَلَّعَ ہُ: کو جان لینا۔ اِطَّلَعَ الامرَ و علیه: معاملہ کو جاننا، سے آگاہ ہونا۔ طِلْعَ العدو: دشمن کے پوشیدہ حال سے واقف ہونا۔ اِسْتَطْلَعَ ہُ: سے حقیقت امر دریافت کرنا۔ رایَ فلان و اسْتَطْلَعَ ہُ رأیَہُ: کی رائے دریافت کرنا۔ الطِّلْع: اِطَّلَعَ کا اسم کہا جاتا ہے۔ اِطَّلِع طِلْعَ العدو: دشمن کی اصل حالت سے واقفیت حاصل کر۔ الطلیعة من الجیش جمع طَلائِع (ا ع): ہراول دستہ جسے لشکر سے آگے دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ (واحد جمع دونوں کے لئے) مَطْلَعُ الامر: کسی کام کے حصول کا ذریعہ اور طریقہ۔

۴۔ طَلَعَ ـُ طُلُوعًا و مَطْلَعًا و مَطْلِعًا علیهم: کی طرف متوجہ ہونا، آنا۔ عنهم: سے دور ہونا، اور غائب ہونا۔ ـُ و طَلِعَ ـَ طُلُوعًا البلادَ: کسی ملک کا قصد کرنا۔ المکانَ: کسی جگہ، پہنچنا۔ من البلادِ: ملک سے نکلنا۔ أَطْلَعَ الیه معروفًا: سے اچھا سلوک کرنا، سے مہربانی کرنا، پر نوازش کرنا۔ علی فلان: کے پاس اچانک آنا۔ اِطَّلَعَ علینا: وہ ہمارے پاس اچانک آیا۔ الطَّلْع و الطِّلْع: گوشہ، کنارہ۔ المُطَّلَع (مفع): آنے کی جگہ، جانے کی جگہ، اونچی جگہ۔

۵۔ الطِّلْع (ح): سانپ۔

○ طَلَعَ ـُ طُلُوعًا و مَطْلَعًا: (خصوصًا اجرام سماویہ کا) طلوع ہونا، چڑھنا، نکلنا، نظر آنا، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، دکھائی دینا، (دانت کا) نکلنا (پودے کا) اُگنا، کی کونپل پھوٹنا۔ من: سے باہر جانا، سے نکلنا، سے باہر آنا، سے نمودار ہونا۔ علی: پر اچانک آجانا، کو جالینا۔ علیه ب: کے پاس کچھ لے جانا یا لانا۔ طَلَعَ ـُ طُلُوعًا و طَلِعَ ـَ ہ: پر چڑھنا، کے اوپر جانا، کی چوٹی پر جانا (موٹر، ٹرین وغیرہ) میں سوار ہونا، میں سفر کرنا۔ طَالَعَ ہ: کا مطالعہ کرنا، کو پڑھنا، کو بغور پڑھنا، کی طرف نظر کرنا، دیکھنا، کا معائنہ کرنا، پر نظر ڈالنا، پر غور کرنا۔ ـــ ہ ب: کو سے آگاہ کرنا، مطلع کرنا، کو کی اطلاع دینا، پر کچھ واضح کرنا، سے کی وضاحت کرنا، سے کی توضیح کرنا، کی تشریح کرنا، توجیہ کرنا، کو کچھ تفصیل سے سمجھانا، یا کے سامنے نیا نظریہ پیش کرنا، پر کچھ افشا کرنا، ظاہر کرنا، کوئی بصیرت دینا۔ ـــ ہ: پر سورج کا چمکنا۔ أَطْلَعَ: (دانت) نکلنا، (پودا کا) نکلنا، (پودے کی) کونپل پھوٹنا۔ ـــ ہ علی: کو سے آگاہ کرنا۔ ـــ ہ علی / من: کو کی یا کے بارے میں اطلاع دینا۔ ہ علی / من: کو سے متنبہ کرنا، آگاہ کرنا، کو کی اطلاع دینا۔ ہ علی: کو کے متعلق بتانا۔ ہ علی: سے کی توضیح کرنا، پر کچھ واضح کرنا، کو کی طرف توجہ دلانا، پر کچھ افشا کرنا، پر کا انکشاف کرنا، کو کچھ دکھانا، پر کچھ ظاہر کرنا، کو کی بصیرت دینا۔ تَطَلَّعَ اِلی: پر نگاہ رکھنا، کا انتظار کرنا، کا منتظر ہونا، پر تلا ہونا، کی طرف دیکھنا، بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ ـــ فی / ب: کو توجہ سے دیکھنا، کو گھورنا۔ اطَّلَعَ: دیکھنا۔ علی: کو دیکھنا، کا مطالعہ کرنا، کو پڑھنا، بغور پڑھنا، سے آگاہ ہونا، مطلع ہونا، کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، کا معائنہ کرنا، جائزہ لینا، کی تحقیقات کرنا، کے بارے میں اچھی طرح واقف ہونا، کے متعلق خاص الخاص اطلاعات رکھنا، سے خفیہ طور پر آگاہ ہونا، کو معلوم کرنا، دریافت کرنا، کا پتہ لگانا۔ اِسْتَطْلَعَ ہ: کو دریافت کرنے، کا گہرا مطالعہ کرنے یا کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کرنا، کے متعلق پوچھنا، دریافت کرنا۔ ہ: میں اشتیاق یا تجسس ابھارنا۔ استطلع رایَہُ: سے مشورہ کرنا، کی رائے یا مشورہ دریافت کرنا۔ استطلع خبرَہ: کے بارے میں معلومات تلاش کرنا۔ طَلْعَة: شکل، صورت، ظاہری شکل، وضع قطع، خارجی مظہر، چہرہ، بشرہ، لباس، وضع طرز لباس۔ طُلَعَة: متجسس، مشتاق، جاننے کا شائق۔ طلّاع: سخت کوشش کرنے والا، آرزومند، متمنی۔ طلّاعُ الثنایا و الانجد: قابل، لائق، کارگزار، توانا، طاقت ور، باہمت، مستعد، سرگرم، چاق چوبند، جاندار۔ طلّاعٌ الی التعرف: جاننے کا شائق، خبروں کا شوقین۔ طَلِیعَة: اگلی صف، اولین صف، محافظ دستہ، جمع طَلائِع: نقیب، پیش رو، عجیب واقعہ، پہلی علامت، نشانی، دلیل، علامت، شروعات۔ فی الطلیعه: سامنے، سرفہرست۔ مَطْلَع جمع مَطالِع: طلوع، اجرام سماویہ کے طلوع کا وقت، چڑھنے کی جگہ، نقطہ آغاز، روانگی کا وقت، فجر، اچانک آغاز، شروع، آغاز، ابتداء، پیش لفظ، تمہید، دیباچہ، مقدمہ، کسی نظم کی ابتدائی ابیات، اپنا نقطہ نگاہ، سیڑھی۔ قاعة المطالعة: مطالعہ کا کمرہ۔ حُبُّ الاستطلاع: تجسس۔ حُبًّا فی الاستطلاع: تجسس کی خاطر۔ طائرة الاستطلاع: دیکھ بھال کا طیارہ۔ حسنُ الطالِع: خوش نصیبی، مبارک ستارہ، خوش بختی۔ لحسنِ طالعی: میری خوش قسمتی سے، خوش نصیبی سے۔ سَیّئُ الطالع: بدنصیب، بدبخت، بدقسمت۔ سَاءَ طالعه: اس کے برے دن آگئے۔

طلف: ۱۔ طَلَّفَ علیه: پر زیادہ کرنا، میں اضافہ کرنا۔ الطَّلَف: زائد چیز۔

۲۔ أَطْلَفَ ہُ کذا: کو کوئی چیز بخشنا، دینا۔ الطَّلَف: بخشش، آسان چیز۔ الطَّلِیف: لی ہوئی، گرفت شدہ، اقتباس شدہ، کھینچا ہوا۔

۳۔ أَطْلَفَ الدمَ: خون کو رائیگاں کرنا۔ الطَّلَف و الطَّلْف: رائیگاں کہا جاتا ہے۔ ذهب دمه طَلَفًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔ الطلیف: رائیگاں، باطل۔

طلق: ۱۔ طَلَقَ ـِ طَلْقًا الشیءَ فلانًا: کو کوئی چیز دینا۔ و أَطْلَقَ یدَہ بخیر: بھلائی کا ہاتھ کھولنا۔ رجلٌ طَلْقُ الیدین: سخی آدمی۔

۲۔ طَلَقَ ـُ طَلاقًا ت المرأةُ من زوجها: عورت کا اپنے شوہر سے جدا ہونا اور اس کو چھوڑ دینا۔ صفت طَالِق جمع طُلَّق و طالِقة جمع طَوالِق: ـ ت الناقةُ: اونٹنی کا پائے بند سے کھلنا۔ طَلِقَ ـَ طَلَقًا: دور ہونا۔

طَلَّقَ قومَهُ :قوم کو چھوڑ دینا اور جدا ہونا۔ المرأۃَ زوجُها :خاوند کا اپنی عورت کو طلاق دینا، قید نکاح سے آزاد کرنا۔ أطلَقَ المرأۃَ :عورت کو طلاق دینا۔ المواشي :مویشی کو کھلا چھوڑنا۔ الاسیرَ :قیدی کو رہا کرنا۔ فی کلامه :کلام کو تمام لانا مقید نہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ أطلق رِجْلَه :جلدی کرنا۔ اطلق الدواء بطنَهُ :دوا دست لائی۔ أُطْلِقَ خيله فی الحلبة :اس نے دوڑنے کے راستہ میں اپنے گھوڑوں کو دوڑایا۔ تَطَلَّقَ ت الخيلُ :گھوڑوں کا آزادی سے منزل مقصود کی طرف جانا۔ انْطَلَقَ :جانا۔ انْطُلِقَ بِه :کو لے جایا جانا۔ اسْتُطْلِقَ البطنُ :(طب) دستوں کا آنا۔ الظبيُ :ہرن کا تیزی سے دوڑنا۔ ـ الامرَ :کی جلدی کرنا۔ الطَلَقُ ج أطلاق آنتیں۔ أمعاء (ج)، ہرن۔ و الطُلُقُ و الطُلُقُ و الطَلْقُ و الطليق :آزاد، غیر مقید کہا جاتا ہے: حُبِسَ طَلْقًا و طُلُقًا :وہ بغیر ہتھکڑی کے قید کیا گیا۔ فرسٌ طَلْقُ اليد :گھوڑا جس کے پاؤں پر سفیدی نہ ہو۔ الطِلْقُ :غیر مقید، آزاد، حلال۔ الطَلَقُ (مص) ج أطلاق :گھوڑے کی ایک دوڑ۔ الاطْلاق (مص) :کہا جاتا ہے: علی الإطْلاق یعنی عام طریقہ پر بلا استثناء۔ الطلّاق و المِطْلاق و المِطْلِيق :بہت طلاقیں دینے والا۔ المُطْلَقُ :آزاد، غیر مقید۔ من الخيل :وہ گھوڑا جس کے ایک پاؤں میں سفیدی نہ ہو، کہا جاتا ہے: مُطْلَقًا :یعنی عام طریقہ پر بلا استثناء۔

۳۔ طَلُقَ ـ طُلُوقًا و طُلُوقَةً اللسانُ :زبان کا فصیح ہونا، خوش بیان ہونا۔ انْطَلَقَ لِسانُهُ :زبان کا رواں ہونا۔ طَلْقُ و طِلِقُ اللسان :فصیح، زبان کی روانی والا، کہا جاتا ہے: لسانُهُ طُلُقٌ و طَلِقٌ و طَلِيقٌ :اسکی زبان فصیح اور روانی والی ہے۔

۴۔ طَلُقَ ـ طُلُوقَةً و طَلاقَةً الرجُلُ :ہنس مکھ ہونا، خندہ پیشانی والا ہونا۔ تَطَلَّقَ وجهُهُ :خندہ پیشانی والا ہونا۔ انطلق وجهُهُ :کشادہ رو ہونا۔ ـ ت نفسُهُ لِلأمْرِ :کا کیلئے شرح صدر ہونا۔ إطَّلَقَ :خندہ رو ہونا، ہشاش بشاش ہونا۔ رجُلٌ طَلْقُ الوجهِ :ہنس مکھ آدمی۔ يومٌ طَلْقٌ :وہ دن جس میں نہ گرمی ہو نہ سردی۔ رجُلٌ طِلِقٌ و طُلُقٌ و طَلِقٌ و طَلِيقُ الوجه :کشادہ رو آدمی، ہنس مکھ آدمی۔

۵۔ طُلِقَ طَلَقًا ت المرأۃُ :عورت کو درد زہ ہونا۔ صفت مَطْلُوقَة۔ الطَلْقُ (مص) ج أطلاق :درد زہ۔

۶۔ طَلَّقَ و أَطْلَقَ النخلةَ :درخت خرما میں گابھا دینا، قلم لگانا۔

۷۔ الطِلْقُ :حصہ، کھال کا بنا ہوا بند۔ و الطَلْقُ :ابرک۔ الطَلَقُ ج أطلاق :مضبوطی سے بنی ہوئی رسی، کھال کا بنایا ہوا بند، کہا جاتا ہے: اصبت من ماله طَلَقًا :مجھے اس کے مال سے ایک حصہ ملا۔ الطُلَقاء :وہ لوگ جو اسلام میں مجبوراً داخل ہوئے۔ یا وہ لوگ جن کو فتح مکہ کے دن اسلام قبول کئے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ لفظی معنی صرف وہ لوگ جن کو آزاد کیا گیا ہو۔ المُطْلَق (مو) :انگلی جمائے بغیر تار پر ضرب لگانا (موسیقی)۔

○ طَلَّقَ علی :(قاضی کا) عورت کے خلاف طلاق کا فیصلہ دینا۔ طَلَّقَت نفسَها :عورت کا طلاق لینا۔ طُلِّقَت عليه :(عدالتی فیصلہ کے ذریعہ) عورت کو اپنے خاوند سے طلاق ملنا۔ أطْلَقَ ه علی :(آتشیں اسلحہ) پر پھینکنا، چھوڑنا، داغنا۔ ـ ه علی :پر کا فائر کرنا۔ أطْلَقَ ه :کو بھیجنا۔ ـ ه :(آواز) نکالنا۔ اطلق زوجته :اپنی بیوی کو طلاق دینا۔ ـ ه :کو رائج کرنا، ترویج دینا، عمومی رواج دینا، عام کرنا۔ ـ ه علی :کو پر لاگو کرنا، منطبق کرنا، چسپاں کرنا۔ اطلَقَ عليه اسم :کا ......نام رکھنا، کو کے نام سے پکارنا۔ يُطْلَقُ علی :یہ کے لئے مطلق قانونی طور پر جائز ہے یا معقول ہے، یہ پر منطبق ہوتا ہے۔ أطلَقَ الحبل علی الغارب :کو کھلی چھٹی دینا، پر کوئی قیود عائد نہ کرنا۔ اطلق حربًا من عقالها :جنگ شروع کرنا۔ أطْلَقَ الدَواءُ بطنَه :دواء نے اسکی قبض کھول دی۔ اطلق الرصاص علی :پر گولی چلانا، پر فائر کرنا۔ اطلق رجليه إلى الريح :سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جانا۔ اطلق ساقيه للريح :سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جانا۔ اطلق الارادة ل في :کو کسی معاملہ میں کھلی چھٹی دینا۔ أطلق سبيله :کو رہا کر دینا، آزاد کر دینا، کو جانے دینا۔ اطلق السبيل لِعَبَرِه :کھل کر آنسو بہانا۔ اطلق سَراحَهُ :کو آزاد کرنا، چھوڑ دینا، رہا کرنا۔ اطلق العنان له :کو کھلی چھٹی دینا، کا اظہار کرنا۔ أطلق لِحيَتَهُ :داڑھی بڑھانا، رکھنا۔ اطلق لسانه فيه اطلاقا شنيعا :کی چغلی کھانا، کے بارے میں ہتک آمیز باتیں کرنا۔ اطلق ألسِنَتَهم ب :کو پر برانگیختہ کرنا۔ اطلق النفسَ علی سَجِيَّتِها :اپنے وجدان کو کھلی چھٹی دینا۔ اطلق النارَ علی :پر فائر (تفنگ) کرنا۔ اطلق النارَ في :کو آگ لگانا۔ أطلق يده ب :کے ساتھ فراخدل ہونا۔ اطلق يده في (ل) :کو میں یا کرنے کے لئے کھلی چھٹی دینا، کو کے لئے غیر محدود اختیار دینا۔ اطلقوا ايديهم في البلاد :انہوں نے ملک سے جابرانہ سلوک کیا، ملک کے ساتھ من مانی کی۔ استطلق یجری :وہ جلدی میں روانہ ہوا۔ انطلق مُسْرِعًا :وہ جلدی سے چلا گیا تیزی سے گیا۔ انطلق لسانُه علی :کے خلاف باتیں کرنا۔ انطلق وجهُهُ :اس کا چہرہ روشن ہو گیا، وہ خوش باش ہو گیا۔ استطلق بطنُهُ :اس کی قبض کھل گئی۔ سريع الطَلَق :تیز فائر کرنے والی بندوق، توپ وغیرہ۔ طَلْقَة ج طلقات :طلاق۔ طلقة بالثلاثة :طلاق بائن۔ طَلْقَة ج طَلَقات :چھرہ، فائر۔ طلقة نارية :فائر، طلاق :طلاق۔ طلاق بالثلاثة اطلاق بائن طلاق رجعي :قابل تنسیخ طلاق، کتاب الطلاق، طلاق نامہ۔ حَلَفَ با الطلاق :ہر مقدس چیز کی قسم کھانا۔ طُلُوقة ج طَلائِق :اسپ نر، نسل کشی والا گھوڑا، بیج کا گھوڑا۔ نقطة الانطلاق :روانگی کی جگہ، نقطہ آغاز۔ طالِق :مطلقہ (عورت) هي طالِقٌ ثلاثًا :وہ تین طلاقی ہے، اسکو بائن طلاق ہو چکی ہے۔ الدول ذات الحكم المطلق :آمریت پسند ممالک۔ مُطْلَق اسراح :آزاد، رہا شدہ۔

طلم :۱۔ طَلَمَ ـ طَلْمًا و طَلَّمَ الخبزةَ :روٹی کو ہاتھ سے برابر کرنا۔ طَلَّمَ الخبزة :روٹی کو ہاتھ سے برابر کرنا۔ العَرَقَ عن جبينه :پیشانی سے پسینہ پونچھنا۔ الطُلْمُ :روٹی چوڑی کرنے کا تختہ، چکوٹی۔ الطُلْمة ج طُلَم :روٹی جسے عام لوگ طلمیا اور طلموسہ کہتے ہیں (سریانی لفظ) المِطْلَمة :بیلن عوام اسے شوبک کہتے ہیں۔

۲۔ الطِلْم :دانتوں کا میل۔

۳۔ طَلْمَسَ :تیوری چڑھانا، ترشروئی کرنا۔ ـ الكتابَ :تحریر مٹانا۔ اِطْلَمَّسَ الليلُ :رات کا بہت تاریک ہونا۔ الطِلْمِساء :تاریکی، وہ زمین جس میں کوئی نشان وغیرہ نہ ہو، پتلا بادل۔

○ طُلُمْبَة ج طلمبات :پمپ (pump)

طَلْمَسَ :تیوری چڑھانا، کڑے تیوروں سے دیکھنا، قہرآلود نگاہیں ڈالنا، تیز تیز نظروں سے دیکھنا۔

طله: طَلَهَ ـ طَلْهًا الرجُلُ في البلاد :ملک میں جانا۔ اِطَّلَهَ اِطِّلاهًا :اطلاع پانا۔ الطَلَه :پتلا بادل۔ الطُلْهَة :بقیہ مال۔

طلا :۱۔ طلا ـ طَلْوًا ه :کو ٹانگ باندھ کر روکنا۔ طَلَّى ه :کو ٹانگ باندھ کر روکنا۔ أطْلَتِ الوَحْشِيَّةُ :جنگلی جانور کا (مادہ)، بچہ والی ہونا۔ الطَلا و الطَلْو ج أطْلاء و طِلاء و طُلِيّ و طِلْيان و طُلْيان :ہرنی کا وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہو، ہر چھوٹی چیز۔ الطِلْوة :جنگلی جانوروں کا بچہ۔

۲۔ طَلاَ ۔ طَلاوَۃً الرجلُ: دیر کرنا۔

۳۔ اطْلَوْلَی اطْلِیلاءً: خوش کلام ہونا۔ الطُّلوَۃ: صبح کی سفیدی۔ الطُّلاوۃ و الطَّلاوَۃ و الطِّلاوَۃ: خوبصورتی ،رونق (کہاجاتا ہے: هذا كلام ما عليه طلاوة: یہ غیر شستہ کلام ہے۔ (یعنی ایسی گفتگو ہے جس میں کوئی خوبی ورونق نہیں) جادو، سحر۔

۴۔ الطِّلو (ح) بھیڑیا۔ الطُّلاوَۃ: پینٹ۔ والطَّلاوۃ والطِّلاوۃ: منہ میں کھانے کا بقیہ، خون یا دودھ کے اوپر کی جھلی۔

○ طَلَی ۔ طَلْیاً و طَلْوًا ہ ب: کو سے پینٹ کرنا، کو کا روغن کرنا، کو سے لیپنا، پوتنا، کی استرکاری کرنا، کو کا کوٹ کرنا، پلستر کرنا، پر کچھ چڑھانا، کا ملمع کرنا، پر کا پتر چڑھانا۔ طَلَی ہ بالذهب: پر سونے کا پتر چڑھانا، پر سونے کا ملمع کرنا۔ طلی ہ بالکھرباء: کو طرح دینا، پر نکل کرنا، چاندی کا پانی چڑھانا، ملمع کرنا، صیقل کرنا۔ طلی ہ بالمیناء: پر میناکاری کرنا۔ لم تنطَلِ علیہ هذه الحیلة: یہ چال اس پر نہ چلی، یہ چال اسے بیوقوف نہ بنا سکی۔ طِلاء: پینٹ، پینٹ کرنا، روغن، روغن کرنا، استرکاری، کوٹنگ، مُلَمَّع کرنا، پر (مٹھائی) چڑھانا، میک اپ، چہرے کا پینٹ۔ الطلاء بالکھرباء: نکل کرنا، ملمع کرنا، طرح دینا، چاندی کا پانی چڑھانا، صیقل کرنا۔ طَلِی: دل خوش کن، پسندیدہ، عمدہ، خوبصورت۔ طَلاوَۃ: حسن، جمال، آن، شان، خوش پوشی، شستگی، پاکیزگی۔ الطُّلْیَان: اٹلی والے (The Italians) طُلَیطِلَۃ: طلیطلہ Toledo (سپین کا ایک شہر)

طلی: ۱۔ طَلَی ۔ طَلْیًا البعیرَ القُطرانَ او بالقطران: اونٹ پر قطران ملنا، (قطران: ایک روغنی سیال مادہ جو صنوبر جیسے درخت سے حاصل کیا جاتا ہے، تیز تار کول)۔

طَلِیَ ۔ طَلًی فوہُ: کے دانتوں کا زرد ہونا۔ طَلَّی تَطْلِیَۃً البعیرَ القطرانَ: اونٹ پر قطران ملنا۔ اللیلُ الآفاقَ: رات کا عالم کو ڈھانپنا۔ تَطَلّی و اطّلی بالقطران: قطران سے مالش کیا جانا۔ الطَّلی جمع أطلاء: قطران ملا ہوا۔ الطُّلاء: جمے ہوئے خون پر کی جھلی۔ الطِّلاء: قطران، انگور کا گاڑھا رس۔ ـــ و الطَّلایَۃ: ہر مالش کی چیز۔ الطَّلِیّ و الطِّلیان: دانتوں کی زردی۔

۲۔ طَلَی ۔ طَلْیًا الشیءَ: کو روکنا۔ طَلّی تَطْلِیَۃً فلاناً: کو قید کرنا۔ الطِّلاء: ہرن کے بچے کی ٹانگ باندھنے کی رسی۔ الطَّلی جمع أطلاء: ہرن کا بچہ۔ الطَّلِی جمع طُلْیان: بکری کا چھوٹا بچہ۔ المَطلیّ: عمر قیدی۔

۳۔ طَلِیَ ۔ طَلًی لسانُہُ: زبان کا ثقیل ہونا، بھاری ہونا۔ أطْلَی: کمزوری وغیرہ کی وجہ سے گردن کا جھکی ہوئی ہونا یا جھکنا۔ الطَّلَی جمع أطْلاء: سخت بیمار۔ الطُّلْیَۃ والطُّلاۃ جمع طُلًی: گردن۔ المُطَلَّی: خطرناک طور پر بیمار۔

۴۔ طَلَّ تَطْلِیَۃً: گانا۔ تَطَلَّی: لہو ولعب میں مشغول ہونا۔ الطَّلَی: خواہش کہاجاتا ہے: قضی طَلاہ: اس نے اپنی خواہش پوری کر لی۔ الطِّلَی: لذت۔

۵۔ طَلَّی تَطْلِیَۃً فلاناً: کو گالی دینا۔

۶۔ الطَّلَی جمع أطلاء: شخص، وجود۔ الطُّلَّی: دودھ کا گھونٹ۔ المِطْلَی و المِطْلاء جمع مَطالٍ: تنگ ندی۔

○ طَلَی: اس لفظ کے جدید معنی اوپر اس کے قدیم معنی سے پہلے درج کئے جا چکے ہیں۔

طم: ۱۔ طَمَّ ۔ طَمًّا و طُمومًا الاناءَ: برتن بھرنا۔ ـــ الماءُ: پانی کا ڈھانپ لینا۔ الشیءُ: بکثرت ہونا۔ الامرُ: معاملہ کا سنگین ہونا۔ ۔ طَمًّا البئرَ: کنویں کو پاٹ کر زمین برابر کرنا۔ الطِّمُّ: بڑی تعداد (کہاجاتا ہے۔ جاء بالطِّمِّ والرِّمِّ: وہ بہت سامان لیکر آیا) پانی، سمندر۔ الطِّمَّۃ: راکھ میں دبا ہوا انگارہ۔ الطُّمَّۃ من الناس: لوگوں کا گروہ۔ طُمَّۃُ القوم: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ طَمِیمُ الناس: لوگوں کی کثرت اور مختلف قسم کے لوگ۔ الطَّامَّۃ: بڑی مصیبت، قیامت۔

۲۔ طَمَّ ۔ طَمًّا و طُمومًا الشعرَ: بال کاٹنا، بالوں کو ملا کر بل دینا۔ اَطَمَّ و اسْتَطَمَّ الشعرُ: بال کاٹنے کا وقت قریب پہنچنا۔

۳۔ طَمَّ ۔ طَمًّا و طَمِیمًا الفرسُ: گھوڑے کا آہستہ آہستہ دوڑنا۔ الطِّمّ: عمدہ گھوڑا۔ فرسٌ طَمُوم: تیز رو گھوڑا۔ الطمیم (مص): نرم اور ہلکی دوڑ، عمدہ گھوڑا۔ الأطامیم: ٹانگیں۔

۴۔ طَمَّ ۔ طَمًّا و طُمومًا و طَمْطَمَ و تَطَمَّ الطائرُ: پرندہ کا ٹہنی پر اترنا۔

۵۔ الطِّمّ تعجب، تعجب آمیز۔

۶۔ طَمْطَمَ: کھلے سمندر میں تیرنا۔ الطَّمْطام: کھلا سمندر، بحر مواج، تلاطم خیز سمندر۔ الطِّمْطِم و الطِّمْطِمیّ و الطُّمْطُمانیّ: زبان کی لکنت والا۔ الطَّماطِم: ٹماٹر، ولایتی بینگن۔

○ طَمَّ ۔ طَمًّا و طُمومًا ہ: سے چھلکنا، کو غرقاب کرنا، زیر آب کرنا، سیلاب میں مبتلا کرنا، گھیر لینا۔ انْطَمَّ: طَمَّ کا قرینہ مجہول۔ طِمّ: بڑی مقدار یا بڑی تعداد، سمندر۔ الطِّمّ والرِّمّ: بہت بڑی دولت۔ طَماطَۃ و طَماطِم: ٹماٹر۔ طَماطِم: اسم جنس ہے۔ واحد طَماطِمۃ۔

طما: طَمْأَنَ: دیکھئے طمن۔

طمث: ۱۔ طَمَثَ ۔ طَمْثًا الشیءَ: کو چھونا۔

۲۔ طَمَثَ و طَمُثَ ۔ طَمْثًا ت المرأۃُ: عورت کو حیض آنا۔ صفت طامِث بمعنی حائض: حیض والی عورت، وہ عورت جسے حیض آیا ہوا ہو)۔ الطَّمْث (مص): میل کچیل، فساد، خون، شک کہاجاتا ہے۔ مابفلان طَمْثُ رِیبَۃٍ: فلاں میں شک کا میل نہیں ہے۔

○ طَمَثَ ۔ طَمُثَ ۔ طَمْثًا: عورت کو ماہواری ہونا، حیض آنا۔ طَمَثَ ۔ طَمْثًا ھا: لڑکی کا پردہ بکارت زائل کرنا (فض بکارتھا) طَمْث: ماہواری حیض۔

طمح: ۱۔ طَمَحَ ۔ طَمْحًا و طِماحًا و طُموحًا بصرُہُ الیہ: کی طرف نظر اٹھنا، غور سے دیکھنا۔ کو نظر اٹھا کر دیکھنا۔ ـــ بأنفِهِ: ناک چڑھانا، مغرور ہونا۔ طَمَحَ الفرسُ: گھوڑے کا اگلی ٹانگوں کو اٹھانا۔ ـــ بالشیءِ فی الھواء: کو ہوا میں پھینکنا۔ أطْمَحَ بصرَہُ الیہ: کی طرف نظر اٹھانا۔ الطِّماح (مص): تکبر، فخر۔ الطَّمّاح: بلند نظر، بلند نگاہ، حریص۔ بحرٌ طَموحُ الموج: بلند موج سمندر۔

۲۔ طَمَحَ ۔ طَمْحًا و طِماحًا و طُموحًا بہ: کو لے جانا۔ فی الطلب: تلاش میں بہت کوشش کرنا۔ ـــ طِماحًا و طُموحًا الدابّۃُ: جانور کا سرکش اور منہ زور ہونا۔ ت المرأۃُ علی زوجھا: عورت کا نافرمان ہونا۔ صفت: طامِح جمع طَوامِح۔ طَمَحات و طَمَحاتُ الدھر: مصائب زمانہ۔

○ طَمَحَ ۔ طُموحًا الی: (آنکھ، نظروں کا) کی طرف رخ کرنا۔ الی: کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا، پر تل جانا، کے لئے کوشش یا جدوجہد کرنا، کا آرزومند ہونا، کا مشتاق ہونا، کے لئے لالچ، طمع یا حرص و آز سے کام لینا۔ ب: کو لے جانا، کو ہٹا دینا، دور کر دینا۔ طُموح: جدوجہد، سخت کوشش، آرزو، تمنا، خواہش، لالچ، طمع، عالی حوصلگی، بلند نظری، اولوالعزمی، بلند تمنائیں، مقصد کی بلندی۔ طَموح: بلند آرزو اور تمنا کرنے والا، حوصلہ مند اولوالعزم، لالچی، طامع، حریص خواہش مند، مشتاق، دلدادہ، شیفتہ، شائق متمنی، شوقین، سرگرم۔ طَمّاح بمعنی طَموح۔ مَطْمَح جمع مطامح: سخت آرزو یا خواہش کا مقصد، جدوجہد کا مقصد، مقصد، مدعا، عالی حوصلگی، بلند نظری، اولوالعزم، بھڑکتی ہوئی خواہش۔ طامِح بمعنی طَموح۔

طمخ: طَمَخَ - طُمُخًا بِاَنْفِهٖ: تکبر کرنا۔

طمر: ا۔ طَمَرَ - طَمْرًا المطمورةَ: کھائی کو بھرنا۔۔۔ طَمْراً الشیءَ: کو دفن کرنا، چھپانا۔ طُمُورًا: جانا۔ طَمرَّ الشیءَ: کو لپیٹنا، دفن کرنا۔۔۔ البیتَ: گھر کے پردے لٹکانا۔ الطَّامِر (فا): کہا جاتا ہے: ھو طامر بن طَامِر: وہ اور اس کا والد دونوں غیر معروف ہیں۔ الطُّمْرُ: جہل، نادانی۔ المَطْمُورَۃ جمع مَطَامِیر: تہ خانہ جس میں غلہ وغیرہ چھپایا جاتا ہے۔ قید۔

۲۔ طَمَرَ - طَمْرًا و طُمُورًا و طِمَاراً و طَمَرانًا: اوپر یا نیچے کودنا، اچھلنا، کودنا۔ اِطَّمَرَ علی فرسہ: گھوڑے پر پیچھے سے کود کر سوار ہونا۔ الطِمْر والطِمِرّ م طِمِرّۃ والطِمِر والطُمْرُور والطِمْرِیر: لمبی ٹانگوں کا تیز رفتار گھوڑا۔

۳۔ طَمَرَ - طَمْراً و طَمِرَ - طَمَراً الجرحُ: زخم کا سوجنا۔ ت الیدُ: ہاتھ کا سوجنا، متورم ہونا۔ طُمِرَ فی ضرسہ: داڑھ میں سخت درد ہونا۔

۴۔ الطِمْر جمع أطمار: پرانا بوسیدہ کپڑا، مفلس، نادار کہا جاتا ہے لاحت الشمسُ فی الأطْمَار: سورج کا زرد ہو جانا اور اس کی کچھ روشنی کا جاتا رہنا۔ الطَامِر: جمع طَوَامِر (ح): پسو۔ طُمْرَّۃُ الشباب: آغاز جوانی۔ الطَامُور و الطُومَار جمع طَوَامیر: کاغذ، صحیفہ کہا جاتا ہے: کتب فی الطومار او الطوامیر: اس نے لپٹے ہوئے کاغذ یا کاغذوں پر لکھا۔ المِطْمَر (ب): معمار کا دھاگا۔ المِطْمَار: معمار کا دھاگا۔ مِطمار: بوسیدہ کپڑے پہننے والا، کہا جاتا ہے ھو علی مطمارِ ابیہ: وہ اپنے باپ کے مشابہ ہے، وہ ساخت اور اخلاق و عادات میں اپنے باپ پر گیا ہے۔

○ طَمَرَ - طَمْراً ہ: (کو خصوصاً لاش کو) دفن کرنا، مٹی سے ڈھانپنا۔ طَمَّرَ ہ: (کسی چیز کو) چھپانا۔ ہ: (کنویں) کو مٹی سے بند کرنا۔ طِمْر جمع طِمار: پورا نا بوسیدہ لباس، چیتھڑے، دھجیاں پھٹے ہوئے ٹکڑے۔ طِمِرّ: یکدم بھڑک اٹھنے والا جنگی گھوڑا، دوڑ کا گھوڑا۔ (Race horse)۔ مِطْمار: شاقول کی ڈوری۔ مَطْمُور: زیر زمین۔ مَطْمُورَۃ: اناج کے لئے زیر زمین گودام۔ طَمَّرَ ہ: (گھوڑے کے) کھریرا کرنا، کو مالش کرنا۔ طِمَار: کھریرا۔ طُومَار جمع طَوَامیر: لپٹا ہوا کاغذ، کاغذوں کی ریل۔

طمس: ا۔ طَمَسَ - طُمُوسًا: دور ہونا کہا جاتا ہے: لا ادری این طمس: میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ بعینہ: دور تک دیکھنا۔

۲۔ طَمَسَ - طَمْساً و طُمُوسًا: مٹنا۔۔۔ النجمُ اَو البصرُ: ستارے یا آنکھ کی روشنی جاتی رہنا۔۔۔ طَمْساً الشیءَ: کو مٹانا، ہلاک کرنا، ڈھانکنا، کے اثر کو جڑ سے اکھیڑ دینا۔۔۔ الغیمُ النجومَ: بادل کا ستاروں کی روشنی کو زائل کر دینا۔ تَطَمَّسَ و اِنْطَمَسَ: مٹنا، مٹ جانا۔ ربوعٌ طِمَاسٌ: مٹے ہوئے مکانات۔ الطَمِیس و المَطْمُوس: اندھا۔

۳۔ طَمَسَ - طَمَاسَۃً الشیءَ: کا اندازہ کرنا۔

○ الطِماس: عسیر الفہم۔ طَامِس: مردہ، ناپید، دھندلا، مبہم، غیر واضح، ناقابل فہم، عسیر الفہم، غامض، مُغلق۔

طمع: طَمِعَ - طَمَعًا و طَمَاعًا و طَمَاعِیَۃً فی الشیء وبہ: کا لالچ کرنا، کی حرص کرنا۔ صفت طَامِع و طَمِع و طَمُع جمع طَمِعُو۔ طُمَعَاء و أطماع و طَمَاعَی طَمُعَ - طَمَاعَۃً: بہت لالچ کرنا، بہت لالچی ہونا۔ طَمَّعَ ہٗ: کو حرص دلانا۔ أطْمَعَ ہٗ: کو لالچ میں ڈالنا۔ تَطَمَّعَ: لالچی ہونا، خواہش مند ہونا۔ الطَمَع (مص) ج أطْمَاع: وہ چیز جس کی خواہش کی جائے، لشکر کی تنخواہ۔ الطَمَاعۃ: خواہش مندی۔ الطَمَّاع و المِطْمَاع: بہت لالچی، بڑا حریص۔ المَطْمَع جمع مَطَامِع: جس کی خواہش کی جائے۔ المَطمَعۃ: طمع کو برانگیختہ کرنے والی چیز۔

○ طَمُعَ - طَمَاعَۃً: حوصلہ مند ہونا، اولوالعزم ہونا۔ طَمِعَ - طَمْعًا ب / فی: کی حوص کرنا، کا لالچ کرنا، کا آرزو مند یا متمنی ہونا۔ طمع ب من: کسی سے توقع کرنا۔ فی: کی امید ہونا۔ طَمَّعَ ہ فی: کو کا آرزومند بنانا، کو کا لالچ دینا۔۔ ہ: کو للچانا، سبز باغ دکھانا، کو اکسانا، ترغیب دینا، ورغلانا، غلط راہ پر لگانا۔ ہ فی: کو کی امید دلانا، کو کی جرات دلانا، کا میں جی بڑھانا، کی پر ہمت بندھانا۔ مَطْمَعَہ: پرکشش شئے، کشش، ورغلاہٹ، غلط راہ پر لگانا، لالچ، ترغیب، تحریص۔ مِطماع: لالچ سے بھرا ہوا، بہت اولوالعزم۔

طمغ: طَمِغَ - طَمَغَات عینہُ: کی آنکھ کا کیچڑ والی ہونا۔

طمل: ا۔ طَمَلَ - طَمْلاً الخبّازُ الخبزَ: روٹی کو بیلن سے چوڑا کرنا۔ الطَمْل (مص): گوندھا ہوا آٹا۔ خبزٌ طَمِیل: بیلن سے چوڑی کی ہوئی روٹی۔ المِطْلَمۃ: بیلن، عوام اسے شوبک کہتے ہیں۔

۲۔ طَمَلَ - طَمْلاً الثوبَ: کپڑے کو گہرا رنگنا۔۔۔ الدمُ السھمَ وغیرہُ: خون کا تیر وغیرہ کو لتھیڑنا۔ طَمِلَ - و طَمِلَ طَمَلاً: خون تیل وغیرہ سے لتھڑنا۔ صفت طَمِیل۔ أطْمَلَ الکتابَ: تحریر کو مٹانا۔ الطِمْل جمع طُمُول: بدزبان اور بدکار، بیوقوف جسے پرواہ نہ ہو کہ کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کہا جا رہا ہے، لالچی، حریص، طامع، سیاہ کمبل، بدحال، بدہیئت فقیر، ہار، بیکلس، پرانا لباس۔۔ والطَمْلۃ و الطُمْلۃ و الطَمَلۃ: گدلا پانی، کیچڑ۔ الطَامِل (فا): بدکار اور بے شرم، جسے اپنے کیے کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ الطُمُول: بمعنی بالا۔ الطُمُولۃ: خباثت، بدکاری۔ الطَمِیل: گدلا پانی، ہار۔ سھمٌ طَمِیل: خون آلود تیر۔

۳۔ طَمَلَ - طَمْلاً الراعی الابلَ: چرواہے کا اونٹوں کو سختی سے ہانکنا۔

۴۔ اُنْطُمِلَ الرجلُ: چوروں کا شریک بننا۔

۵۔ الطَمْل: ساری مخلوق۔ خلقت۔ الطِمْل ج طُمُول: بے وقوف۔ الطمیل: گمنام۔ چٹائی، چوڑا پھل، (ح) بکری کا بچہ۔

طمن: ا۔ طَمْأَنَ طَمْأَنَۃً و طَأْمَنَ ظَھرَہُ: پیٹھ کو جھکانا، نیچا کرنا۔ تَطَأْمَنَ: پست ہونا۔ اِطْمَأَنَّ اطْمِئنانًا و طُمَأْنِینَۃً: پست ہونا۔ المُطْمَئِن من الارض: پست نشیبی، زمین، ہموار زمین۔

۲۔ طَمْأَن طَمْأَنَۃً طَأْمَنَ الشیءَ: کو ساکن کرنا، عوام کہتے ہیں طَمَّنَہُ: اس نے اسے پُرسکون کیا، چپ کرایا۔ اِطْمَأَنَّ اطْمِئنانًا و طُمَأْنِینَۃً الیہ: سے سکون حاصل کرنا، قرار پکڑنا کہا جاتا ہے۔ اِطْمَأَنَّ عما کان یفعلہ: جو کر رہا تھا اسے چھوڑ دیا۔ الطَمْن جمع طُمُون و المُطْمَئِن: پُرسکون، ساکن، آرام سے لطف اندوز۔

○ طَمَّنَ ہ / ہ: کو چپ کرانا، کو ساکن یا ساکت کرنا، تسکین دینا، بند کرنا، روکنا، کا جوش فرد کرنا، ٹھنڈا کرنا، دھیما کرنا، آفاقہ دینا، گھٹانا، کم کرنا، کی تخفیف کرنا، کو تسلی دینا، تسکین پہنچانا۔ تَطَامَنَ: نیچا ہونا یا ہو جانا، نشیبی ہونا، بیٹھنا، بیٹھ جانا، عام سطح پر آنا، فرو ہونا، دھنس جانا، پرسکون ہونا، ساکت ہونا، گھٹنا، کم ہونا یا ہو جانا، جھکنا، جھکا ہونا۔ تطمین: تشفی، تسکین، تخفیف، تسلی۔ مُطَامِن: نیچا، نشیبی۔

طما: طَمَا - طُمُوًّا الماءُ: پانی کا بلند ہونا اور دریا کو بھر دینا۔ البحرُ: دریا کا چڑھنا یا طغیانی میں آنا، دریا کا بھرا ہوا ہونا۔ النبتُ: پودے کا اونچا ہونا۔ ت ھمّتُہ: خیال کا بلند ہونا۔ بہ الھمُّ او الخوفُ: سے غم یا خوف کا بڑھ جانا۔ طَمِیَ - طَمْیًا الماءُ والبحرُ والنبتُ: پانی، دریا اور پودے کا بلند ہونا، اونچا ہونا، طغیانی میں آنا اور اونچا ہونا۔

○ طَمَا - طُمُوًّا و طَمَی - طَمْیاً: کناروں پر سے بہنا۔ طَمْی: سیلابی کیچڑ، گار، سیلاب کی لائی ہوئی مٹی یا ریت

طن: طَنَّ - طَنًّا و طَنِینًا و طَنَّ الذبابُ او الناقوسُ

وشبـه ذلك: مکھی یا ناقوس وغیرہ کا بھنبھنانا، بجنا، آواز دینا۔ أَطَنَّ هُ: کو بجانا۔ الساقَ: پنڈلی کاٹنا۔ اس سے مراد کاٹنے کی آواز ہے۔ الطَنَّان: بہت بجنے والا کہا جاتا ہے: لفلان ذكر طَنَّانٌ: یعنی وہ مشہور ہے۔ تلك قصيدةٌ طَنَانَةٌ: اس قصیدہ کی ہر جگہ شہرت ہے، اس نظم کا ہر جگہ چرچا ہے۔ الطَنَّانَة: (ح) ایک اڑنے والا کیڑا، جس کے پرواز کے دوران پر بھنبھناہٹ سنتے ہیں، پھولوں کے پودوں کی کونپلیں پھوٹنے میں مدد دیتا ہے۔

۲- طَنَّ ـ طَنًّا و طنينًا فلانٌ: مرجانا، مرنا۔

۳- الطُنّ: بانس کا گٹھا۔ ج طِنان و أَطْنَان انسان وغیرہ کا بدن۔ ایک ہزار کلو کا وزن (ٹن) الطُنَّة: ایک بانس۔ الطُنِّي من الرجال: بڑے ڈیل، ڈول کا آدمی۔

۴- طَنْطَنَ طَنْطَنَةً الجرسُ والطستُ والذبابُ ونحوها: گھنٹی کا بجنا، طشت کی جھنکار ہونا، مکھی کا بھنبھنانا وغیرہ۔

○ طَنِين: (گھنٹی کی) جھنکار ملی جلی، ٹن ٹن، یا بجنا، چھن چھن، چھنا کا (کیڑے کی) بھنبھناہٹ (کانوں کا) بجنا۔ طَنَّان: بجنے والا، آواز نکالنے والا، زور سے بجنے والا ٹن ٹن کرنے والا، گرجنے والا، کڑکنے والا، زور کی آواز نکالنے والا، گونجنے والا، گونج کی آواز نکالنے والا، چرچا والا، مرتعش، گونج دار، بھنبھناہٹ والا، کتیلی کا بھونپو کی سیٹی، مشہور، معروف، نامی وگرامی۔

طنا: ۱- طَنَأَ ـ طَنْأً و طَنِيَ ـ طَنَأً: شرم کرنا، حیا کرنا۔

۲- أَطْنَأَ: کسی جگہ یا حوض، بچھونے کی طرف مائل ہونا اور کاہلی سے سوجانا۔ الطِنء: برائی کی طرف رجحان، بدکاری، مکان، بچھونا۔

۳- أُطْنَأَ: کہا جاتا ہے۔ حيّة لاتُطْنِئُ: وہ سانپ جس کا ڈسا ہوا فوراً مرجائے۔ الطِنء: بقیہ روح، بقیہ زندگی کہا جاتا ہے۔ رُمِيَ فلانٌ في طِنئِه: یعنی فلاں شخص مرگیا۔

۴- الطِنءُ: بجھی ہوئی راکھ، باغ اوالوالعزمی کہا جاتا ہے: فلانٌ بعيد الطِنءِ: یعنی فلاں شخص اوالوالعزم ہے) شک۔

طنب: ۱- طَنِبَ ـ طَنَباً الرمحُ: نیزہ کا ٹیڑھا ہونا۔ الفرسُ: گھوڑے کا لمبی پیٹھ اور لمبی کمزور ٹانگوں والا ہونا۔ صفت أَطْنَب م طَنْبَاء

۲- طَنَّبَ الخيمةَ: خیمہ لگانا، نصب کرنا۔ ـــ السقاءَ: مشک میں پیوند لگانا۔ بالمكان: کسی جگہ قیام کرنا۔ طَانَبَ القومُ: قوم کے خیموں کی رسی کے ساتھ اپنے خیمہ کی رسی ملانا۔ تَطَانَبَ القومُ: لوگوں کا اپنے خیموں کی رسیوں کو ایک دوسرے کی طرف کرنا۔ الطُنُب جمع أَطْنَاب و طِنَبَة: خیمہ کی لمبی رسی (ع ا) جسم کا پٹھا (ز) درخت کی جڑ کہا جاتا ہے۔ مدّت الشمسُ أَطْنَابَها: یعنی سورج طلوع ہوا۔ تقبّضت أَطْنَابُها: سورج غروب ہوگیا۔ الطُنُب والإطْنَابَة جمع أَطَانِيب: کمان کے قبضہ پر باندھنے کا تسمہ۔ المَطْنَب جمع مَطَانِب: کندھا۔

۳- طَنَّبَ الذئبُ: بھیڑیے کا بھونکنا۔

۴- أَطْنَبَت الإبلُ: اونٹوں کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا۔ خيلٌ أَطَانِيب: ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والے گھوڑے۔ جيشٌ مِطْنَابٌ: جرار لشکر۔

۵- أَطْنَبَ في الوصف او العَدْو: صفت بیان کرنے یا دوڑ میں مبالغہ کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ أَطْنَبَ الشاعِرُ في الكلام: شاعر کا کلام میں حدیں پھلانگ جانا۔ مدح یا ذم کے بیان میں بلاغت کے جوہر دکھانا۔ ت الريحُ: ہوا کا غبار اٹھانا۔ المُطْنِب (فا): ہر ایک کی تعریف کرنے والا۔

۶- الطُنْبُور والطنبار ج طَنَابير (مو): ستار۔

۷- طَنْبَلَ طَنْبَلَةً الرجُلُ: سمجھ کے بعد بیوقوف بننا۔ الطَنْبَل: سست و کند ذہن، بیوقوف۔ الطَنْبَلَة (مص) کہا جاتا ہے: كان بينهم طَنْبَلَةٌ: ان کے درمیان شر و فساد تھا۔

○ طَنَّبَ ب: میں رہنا، اقامت گزین ہونا، قیام کرنا، رک جانا، آباد ہونا۔ أَطْنَبَ في: میں حد سے زیادہ، فزوں ہونا، مبالغہ سے کام لینا، کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ ـــ شیخی بگھارنا۔ طُنُب جمع أَطْنَاب: خیمہ کی رسی، نس، وتر۔ شَدَّ أَطْنَابَهُ: ٹھہرنا، عارضی قیام کرنا، رہنا، رہائش رکھنا۔ ضرب اطنابه على: کسی جگہ آباد ہونا، مستقل رہائش اختیار کرنا۔ ضَرَبَ اطنابه في: کسی جگہ جم جانا، مستحکم ہونا، میں عام ہونا، کا رواج ہونا۔ إِطْنَاب: مبالغہ، بہت طوالت، طول طویل ہونا، لفاظی۔ طُنْبُور جمع طَنَابِير: آبپاشی کے لئے پانی اونچا کرنے میں استعمال ہونے والا ایک آلہ، ڈرم، سلنڈر۔ طُنْبُوري: ستار نواز۔ طنج: الطَنْجَرة: تانبے کی دیگچی (ترکی لفظ)۔ الطِنْجِير: کڑاہی۔ بزدلی اور کمینہ سے کنایہ۔

طنخ: طَنِخَ ـ طَنَخاً: بدہضمی ہونا، دل پر چربی کا غالب ہونا، موٹا ہونا، صفت۔ طَنِخ و طَانِخ۔ ت نفسُهُ: جی کا بگڑنا۔ طَنَّخَ و أَطْنَخَ هُ: کو بدہضمی کرنا۔ الطِنْخ کہا جاتا ہے: مرّ طِنْخٌ من الليل: رات کا ایک پہر گزر گیا۔

طنز: طَنَزَ ـ طَنْزاً به: کا تمسخر اڑانا۔ تَطَانَزَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر کرنا۔ الطَنَّاز: تمسخر کرنے والا۔

طنط: الطُنْطُلَة (عند العامة): گلے کا کوا، صحیح لفظ الطُلاطِلة: ہے۔

○ طَنْطَا: شمالی مصر کا ایک شہر۔

طنف: ۱- طَنِفَ ـ طَنَفاً: متہم ہونا۔ طَنَّفَ هُ: پر تہمت لگانا۔

۲- طَنِفَ ـ طَنَافَةً و طُنُوفَةً و طَنَفًا: بدباطن ہونا۔ صفت۔ طَنِف۔ طَنَّفَ نَفْسَهُ الى كذا: نفس کو طمع کے نزدیک کرنا، کی حرص کرنا۔

۳- طَنَّفَ الجدارَ: دیوار پر کانٹے یا ٹہنیاں رکھنا، دیوار پر کنگر (کانس) لگانا۔ تَطَنَّفَ القومَ: لوگوں کے پاس جا کر انہیں گھیر لینا۔ الطَنَف والطُنُف والطِنَف والطُنُف جمع طُنُوف و أَطْنَاف: چھجہ، کارنس، پہاڑ کی نکلی ہوئی چٹان، ابھرا ہوا حصہ۔ المُطْنِف: چھجہ یا کانس والا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے والا۔

○ طُنُف، طَنَف و طُنُف جمع طُنُوف و أَطْنَاف: اوپر کا حصہ، چوٹی (پہاڑ کی) کنگر، کھڑی چٹان، کے پہلو سے ابھرا ہوا پتھر۔

۴- طَنْفَسَ: بدخلق ہونا، بہت سے کپڑے پہننا۔ الطِنْفِس: ردی و بدشکل۔ الطُنْفُسَة و الطَنْفَسَة و الطِنْفِسَة جمع طَنَافِس: فرش، چٹائی، کپڑا (فارسی لفظ)

طنو: الطُنُو: بدکاری۔ الطِنو: فرش۔

طنی: ۱- طَنِيَ ـ طَنًى و أَطْنَى: تلی یا پھیپھڑے کا پہلو یا پسلیوں سے چمٹنا۔ صفت طَنٍ و طَنًّى

۲- طَنِيَ ـ طِنًى اللديغُ من لدغ العقرب: بچھو کے ڈسنے سے اچھا ہو جانا۔ طَنَّى فُلاناً: کی تلی یا پھیپھڑے کی بیماری کا علاج کرنا۔ أَطْنَى هُ المرضُ: بیماری کا مریض میں اپنا اثر باقی رکھنا۔ الطَنَى: بیماری۔

۳- طَنِيَ ـ طَنًى و أَطْنَى في فجوره او فساده: بدکاری و فساد میں ہمیشہ مبتلا رہنا۔ الطُنْيُ: بدکاری و فساد۔ الطَانِي (فا) جمع طُنَاة: زانی۔

۴- الطَنَى: تہمت، بجھی ہوئی راکھ۔

طهر: ۱- طَهَرَ ـ وطَهُرَ ـ طُهْراً و طُهُوراً و طَهَارَةً: پاک ہونا صفت طَاهِر جمع أَطْهَار و طَهِر جمع طَهِرُون و طَهِير جمع طَهَارَى کہا جاتا ہے: رجُلٌ طَاهِر الثياب: پاکدامن۔ طَهَّرَهُ: کو پاک کرنا۔ الشيء بالماء: کو پانی سے دھونا۔ تَطَهَّرَ و اطَّهَّرَ: میل سے پاک صاف ہونا، غسل کرنا۔ الطُهْر: پاکی (حیض سے)۔ الطُهْرَة: پاکی صفائی، پانی سے غسل۔

الأطهار: عورت کی پاکی کے دن۔ الطهُور (مص): جس سے پاکی حاصل کی جائے۔ المَطهَر: موت کے بعد محدود مدت کے عذاب سے نیک لوگوں کو پاک کرنے کی جگہ۔ المَطهَرة و المِطهَرة جمع مَطاهِر: وضو وغیرہ کا لوٹا، نہانے کا کمرہ، کہا جاتا ہے۔ السِواكُ مَطهَرةٌ للفم: مسواک منہ کی صفائی کرتی ہے۔ المُطهِرة: متعدی مراض کے بیمار کے کپڑے صاف کرنے کا آلہ۔

۲۔ طَهَرَ - طَهْرًا ہُ: کو دور کرنا۔

○ طَهَرَ و طَهُرَ - طُهرًا و طَهَارَةً: پاک ہونا، پاک صاف ہونا۔ طَهَرت و طَهُرت: عورت کا حیض سے پاک ہونا۔ طَهَّرہ / ہ: کو صاف کرنا، اچھی طرح سے دھونا، مانجھنا، گناہوں سے پاک کرنا، پونچھنا، صاف کرنا، قابل اعتراض حصے نکال دینا، سزا دے کر سدھارنا۔ ہ۔ کے وبائی اثرات دور کرنا، کو جراثیم سے پاک کرنا، کے جراثیم مارنا۔ ــــ ہ: (نہر وغیرہ سے) گار نکالنا ــــ ہ: کا ختنہ کرنا۔ طَاهَرہ: کا ختنہ کرنا۔ تَطَهَّرَ: اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، وضو کرنا۔ طُهُور: ختنہ، پاکیزگی، پاکی، صفائی ستھرائی، صاف کرنے والا، صاف، پاک۔ طَهَارة: صفائی، پاکیزگی، پاکی، پاکدامنی، تقدس، بزرگی، تقدیس، ختنہ۔ طهارة الذيل: معصومیت، بیگناہی، دیانت داری، دیانت۔ مَطهَرة جمع مَطاهِر: غسل خانہ، منہ ہاتھ دھونے کا کمرہ، وضو خانہ، بیت الخلاء (Toilet) طاهِر الذِمّة: دیانتدار، نیک، خدا ترس۔ طاهر الذيل: معصوم، بے گناہ، پاکدامن، دیانت دار۔ مُطهِّر جمع مُطهِّرات: جراثیم کش۔ مُطَهَّر: پاک صاف، بے عیب، بے داغ۔ طِهْران: ایران کا دار الحکومت۔

طهس: طَهَسَ - طَهْسًا في الارض: زمین میں داخل ہونا۔ اور گھسنا۔

طهش: طَهِشَ - طَهَشًا العملَ: کام بگاڑنا۔

طهف: ا۔ أَطْهَفَ السقاءُ: مشک کا ڈھیلا ہونا۔ زبدةٌ طَهِفَةٌ: نرم مکھن۔

۲۔ أَطْهَفَ في الكلام: روانی اور آسانی سے کلام کرنا، روانی سے بولنا۔

۳۔ أَطْهَفَ لفلان من ماله طِهْفَةً: فلاں کو اپنے مال سے کچھ حصہ دینا۔ الطِهفة من الشيء: ٹکڑا۔ الطُهافة: پیشانی کے بال، گیسو یا بالوں کی لٹ۔

۴۔ الطَهَف: پناہ۔ الطهاف من السحاب: بلند بادل۔

طهق: طَهَقَ - طَهْقًا: تیز چلنا۔

○ تَطَهَّقَ من: سے سخت نفرت کرنا، کو حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، سے کراہت کرنا، گھن کھانا۔

طهل: طَهَلَ و طَهِلَ - طَهْلاً و طَهَلاً و تَطَهَّلَ الماءُ: پانی کا خراب ہونا۔ صفت۔ طَاهِل و طَهِل۔ أَطْهَلَت الارضُ: زمین کا تھوڑی سی گھاس اگانا۔ الطُهلة: چیز کا بقیہ، تھوڑی سی گھاس۔

طهم: طَهُمَ الشيءُ: بڑا ہونا، موٹا ہونا۔ منه: سے بچنا، پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، کنی کترانا۔ تَطَهَّمَ الطعامَ: کھانے سے کراہت کرنا، گھن کھانا۔ المُطهَّم: موٹا، نحیف الجسم، مکمل اور بہت خوبصورت چیز۔ جَوادٌ مُطَهَّم: مکمل خوبصورت گھوڑا۔

طها: ا۔ طَهَا - طُهُوًّا: ملک میں ادھر ادھر پھرنا۔

۲۔ طَهَا - وَيَطْهِي طَهْوًا و طُهُوًّا و طُهِيًّا و طَهَايَةً اللحمَ: گوشت کو پکانا یا بھوننا۔ أَطْهَى اطْهَاءً: اپنی صنعت میں ماہر ہونا۔ الطَهْو (مص): کام کہا جاتا ہے: كان طَهْوِي كذا: میرا کام ایسا تھا۔ الطَهِي: پکایا ہوا۔ الطاهِي (فا) جمع طُهَاة و طُهِيّ م طَاهِيَة جمع طَوَاهٍ و طَاهِيَات: باورچی، بھوننے والا، نانبائی۔ الطِهاية: باورچی کا پیشہ۔

۳۔ الطَهَى: تنکا۔ الطُهَى: گناہ، جرم۔ الطَهْيُ: سخت چوٹ، پتلا بادل۔ الطُهاوة: دودھ یا خون کے اوپر کی جھلی۔ الطَهاءَة: بلند بادل۔

○ مَطْهًى: باورچی خانہ۔

طاء: طَاءَ - طَوْءًا: آنا جانا، آمد و رفت کرنا۔ في الارض: ملک میں دور نکل جانا۔ تَطَاءَ تَطَايُوًّا اتِ الاسعارُ: بھاؤ کا گراں ہونا، قیمتوں کا چڑھنا۔ الطَاءَة: چراگاہ میں دور نکل جانا، سیاہ کیچڑ۔ الطُوئِيّ: کہا جاتا ہے۔ مابالدار طُوئِي: گھر میں کوئی نہیں۔

طوب: الطُوب: (واحد طُوبَة) پختہ اینٹ۔ الطَوَّاب: اینٹیں بنانے والا۔

۲۔ الطوبو غرافیا: جغرافیائی خصوصیات۔ ان کا تذکرہ (Topogrophy) (یونانی لفظ)

○ طَوَاشِي جمع طَوَاشية: ہیجڑا، خواجہ سرا۔ طَوَّاية: فرائی پان (Frying pon)

طَابَه: جمع طابات: گیند۔

طاح: طَاحَ - طَوْحًا: بھٹکنا، ادھر ادھر پھرنا، مارا مارا پھرنا، ہلاکت کے نزدیک پہنچنا۔ السهمُ: تیر کا نشانہ سے چوکنا۔ طَوَّحَ تَطْوِيحًا ہُ: کو راہ سے بھٹکانا۔ الشيءَ: کو ضائع کرنا۔ -- بہ: کو خطرناک امور پر اکسانا، کو ہوا میں پھینکنا، کہا جاتا ہے: طَوَّحَتْ بہ طوائح الزمن: حوادث زمانہ نے اسے دور پھینک دیا۔ طَيَّحَ تَطْيِيحًا الشيءَ: کو ضائع کرنا۔ طَاوَحَ مُطَاوَحَةً ہُ بكذا: کو ایک دوسرے کی طرف پھینکنا۔ أَطَاحَ ہُ: کو ہلاک کرنا، تباہ کرنا۔ الشعرَ: بال گرانا۔ تَطَوَّحَ في البلاد: اپنے آپ کو ملکوں میں پھینک دینا، سرگرداں ہونا۔ في البئر: کنویں میں گرنا کہا جاتا ہے۔ نام على مَطِيّته يَتَطَوَّحُ: وہ اپنی سواری پر سو گیا اور ہوا میں جاتا آتا رہا۔ تَطَاوَحَ تَطَاوُحًا القومُ فلانا بالامر او بالضرب: میں باہم تنازع کرنا۔ تطاوحت به النوى: فراق الابعد نے اس کو پھینک دیا یعنی اس نے مختلف ملکوں میں لمبا سفر کیا۔ الطوح دورنيّةٌ طَوَحٌ: دور کی نیت۔ الطَوائح: قسمت کے حادثات۔ المَطاوِح واحد مَطَاحة: ہلاکت کی جگہیں۔ المِطْوَاح: لاٹھی۔

○ طاح - طُوحًا: فنا ہو جانا، مرجانا، اپنی راہ گم کرنا، غلط راستے پر چلنا، بھٹکنا، ادھر ادھر مارے مارے پھرنا، گر پڑنا۔ طاح ب: کو پھینکنا۔ طَوَّحَ ہ / ب: کو مروانا، خطرہ میں ڈالنا ــــ ب: کو دور پھینکنا۔ ب الی: کو میں پھینکنا، کو میں لے جانا۔ ہ الی: کو پراکسانا۔ طَوَّحت به الطوائح: قسمت نے اسے سخت چکر کے لگائے۔ أَطَاحَ ہ / ہ: کو گرانا، کو بے کار سمجھ کر پھینکنا، ترک کرنا۔ -- ب: کو جانے دینا، لے جانا، پھاڑنا، چیرنا۔ -- ہ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کاٹ ڈالنا (خصوصا سر کو) تَطَوَّحَ: گرنا، پھینکا جانا، مارا مارا پھرنا، بھٹک جانا، بھٹکتے پھرنا، ہلنا، جلنا، جھومنا، چکرانا، چکرا جانا، لڑکھڑا کر چلنا، ڈگمگانا۔ طَوائِح: مصائب، آفات، قسمت کے چکر۔ مُطَوَّح جمع مُطَوِّحات: سانحہ، غیر متوقع بات، مہم، کارنمایاں، جان بازی کا کام۔

طاخ: طَاخَ - طُوخًا و طَوْخَاةً: کسی کو گالی دینا، کی برائی کرنا صفت طَوّاخ

طاد: ا۔ طَادَ - طُوْدًا: ثابت قدم رہنا۔ الطَود (مص) جمع أَطْوَاد و طِوَدَة: بڑا پہاڑ، ٹیلہ۔ المُنطاد جمع مَنَاطيد: بلند کہا جاتا ہے۔ بناءٌ مُنطاد: بلند عمارت۔

۲۔ طَوَّدَ في البلاد: ملکوں میں پھرنا۔ بہ: کو جان لیوا صحراء میں چلنے پر اکسانا۔ تَطَوَّدَ في البلاد: ملکوں میں پھرنا۔ انْطَادَ: ہوا میں بلند ہونا۔ التَطْواد: گھومنا، پھرنا۔ المَطَادة: لق و دق بیابان۔ المَطَاوِد: خطرناک جگہیں۔ المُنطاد جمع مَنَاطيد: غبارہ۔

○ انْطَادَ: ہوا میں بلند ہونا، اوپر اور اوپر کو اڑنا۔ طَوْد جمع أَطْوَاد: بلند اور اونچا پہاڑ۔ مُنْطَاد جمع مَنَاطيد: غبارہ۔ مُنطاد مُقيّد: زمین بستہ غبارہ، پتنگ، کنکوا، گڈی۔ منطاد هوائي ثابت: طیارہ روک غبارہ

طار ا- طَارَ ۔طَوْرًا و طَوَرَانًا بفلان: کے نزدیک ہونا۔ الطَّور (مص) جمع أَطْوَار: حد، مقابل، اندازہ کہا جاتا ہے۔ عدا طَوْرَہٗ: وہ حد سے بڑھ گیا۔ جاوَزَ طَوْرَہٗ: وہ اندازہ سے بڑھ گیا۔ الطُّوْر: گھر کا صحن، مقابل کی چیز، مثل۔ الطَّوَار: مقابل کی چیز، مثل کہا جاتا ہے۔ هٰذه الدار علی طَوَار داری: اس گھر کی دیوار میرے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہے۔ والطِوار: گھر کا صحن۔ طارَۃُ المُنْخَل: چھلنی کا چولی کھیرا، یہ بگڑی ہوئی عربی ہے۔ صحیح لفظ اِطار ہے۔ کہا جاتا ہے۔ بَلَغَ فلانٌ فِي العلم أَطْوَرَيْهِ: فلاں شخص علم میں اس کے دونوں کناروں تک پہنچ گیا۔ یعنی علم کی انتہائی حدود تک جا پہنچا۔

۲- الطور جمع أَطْوَار: ہیئت، حال (کہا جاتا ہے: الناسُ أطوار: لوگ کئی قسم کے ہیں مختلف حالات کے ہیں۔) ایک بار کہا جاتا ہے۔ أتيته طوراً بعد طور: میں اس کے پاس بار بار آیا۔ الطور پہاڑ۔ الطُوری: وحشی۔ والطُّورَانِيّ: وحشی پرندہ اور آدمی کہا جاتا ہے۔ ما بالدار طُورِيٌّ أو طُورَانِيٌّ: گھر میں کوئی بھی نہیں۔ الطارُو الطارَۃ (مو): ایک طرح کا موسیقی کا آلہ، طنبورہ (عام بول چال میں) کہا جاتا ہے۔ لَقِيَ مِنهُ الأَطْوَرِيْنَ: اس کو اس سے بڑی مصیبت پہنچی (جمع سالم مبالغہ کے لئے استعمال کیا گیا ہے)

۳- الطُّورْبِيل: جسے الطوربید بھی کہا جاتا ہے، تار پیڈو، آبدوز گولہ (Torpedo) (اٹلی زبان کا لفظ)

○ طَوَّرَہٗ: کو بڑھانا، پختگی یا تکمیل کو پہنچانا، ترقی دینا۔ تَطَوَّر: پختگی اور تکمیل کو پہنچنا، نشوونما پانا، ارتقاپذیر ہونا، تبدیل ہونا، متغیر ہونا، دوڑ کا مقابلہ کرنا (گاڑی کا) طَوْر جمع اطوار: ایک بار، حالت، حد، مرحلہ، درجہ۔ اور (Phase) طوراً بعد طور بار بار، اکثر۔ طوراً ۔ طوراً یا حیناً ۔ طوراً: کبھی کبھی، کبھی کبھار۔ خرج عن طَوْرِہ: پریشان ہو جانا، ضبط نفس کھو دینا۔ اخرجه عن طوره: کو پریشان کرنا، کے اطمینان وسکون میں خلل ڈالنا۔ غریبُ الاطوار: شکی۔ طُورُ سيناء و طُورُ سينا: سینا پہاڑ (Mount Sinai) طُورِی: وحشی۔ طَوَار: بٹ باٹھ، پٹری۔ طُورَانی: وحشی، طورانی۔ تَطَوُّر جمع تَطَوُّرات: ترقی، تکمیل، بالیدگی، نشوونما، ارتقاء، جمع تطوُّرات: ترقی کے مراحل، ارتقائی ادوار، نئی صورت حالات، ترقی یافتہ حالت۔ قابلُ التطوّر: قابل ترقی وارتقاء۔ تَطَوُّری: ارتقائی۔ نظریۃ تطوریۃ، نظریہ ارتقاء۔ طار = اطار: حلقہ، دائرہ، کڑا، ناڑ، فریم، پہیہ، گھیرا۔ طنبورہ۔

طاس ا- طَاسَ ۔طَوْسًا الوجهُ: چہرہ کا خوبصورت ہونا۔ طَوَّسَہٗ: کو آراستہ کرنا، سجانا، کی آرائش کرنا، کا سنگار کرنا۔ المصوّرُ التصویرَ: کا مور کی شکل بنانا۔ تَطَوَّسَتِ المرأۃُ: عورت کا آراستہ ہونا، سنگار کرنا۔ ___ للحماقۃ: حماقت سے پھول جانا۔ الطَّوْس (مص): چاند۔ الطَّاوُوس و الطَّاؤُوس: مور، جمع اطواس و طواویس تصغیر: طُوَیْس۔

۲- طَاسَ ۔طَوْسًا الشيءَ: کوروندنا۔

۳- طَوَّسَ به: کو لے جانا۔

۴- الطاس جمع طاسات: پینے کا برتن۔ الطُوس: ایک دست آور دوا۔

○ طاس جمع طاسات و طاسة جمع طاسات: پینے کا برتن۔ طاسة التحمير: فرائی پان۔ طاسة التصادم: بفر، ٹکر روک، (ریل کی پٹری) (Buffer) مُطَوَّس: مزین، دکھاوے کے طور پر آراستہ، سجا ہوا، سنگھار کیے ہوئے۔

طوش: طَوَّشَ الرجلُ: قرض دار کو ٹال مٹول کرنا۔ الذكرَ: کو آختہ کرنا، ہیجڑا بنانا۔ الطَّوَاشي جمع طَوَاشِيَة: آختہ، خصی کیا ہوا، ہیجڑا، خواجہ سرا (فارسی لفظ)

طاع: ا- طَاعَ ۔طَوْعًا لفلان: کی تابعداری کرنا، کا فرمانبردار ہونا۔ صفت طائِع جمع طُوَّع و طائعون کہا جاتا ہے۔ أَمَرَہٗ فطاع (صرف الف کے ساتھ) اس نے اسے حکم دیا تو اس نے اسکی تابعداری کی۔ لسانُہٗ لا يطوع بكذا: میں اسکی زبان اسکا ساتھ نہیں دیتی۔ طَاعَ له المرتَعُ: چراگاہ اس کے لئے وسیع ہے۔ وہ جب چاہے اپنے مویشیوں کو وہاں چھوڑ سکتا ہے۔ طَوَّعَہٗ: کو تابعدار بنانا۔ ت لہٗ نفسُہٗ كذا: دل کا اسکو کچھ کرنے کی اجازت دینا اور اسے آسان کرنا۔ طَاوَعَ مُطَاوَعَۃً في الامر و عليه: سے میں اتفاق کرنا کہا جاتا ہے۔ طاوع له المرادُ: کی مراد آسانی سے بر آئی۔ أَطَاعَ اطاعةً و طَاعَةً ہٗ: کی فرمانبرداری کرنا، کا تابعدار ہونا۔ ہٗ و أَطَاعَ له المرعى: چراگاہ کا کسی کے لئے وسیع ہونا اور اپنے مویشی چرانے کا مجاز بنانا۔ تَطَوَّعَ: بتکلف اطاعت کرنا۔ تَطَوَّعَ في الجندية: فوج میں رضا کارانہ شامل ہونا۔ بالشيء و للشيء: بتکلف کی استطاعت ظاہر کرنا۔ انْطَاعَ انطياعًا له: کا تابع و فرماں بردار ہونا۔ استطاع استطاعةَ الامرَ: کی طاقت رکھنا، کا لائق ہونا، کو کر سکنا۔ (تا حذف کر کے) اسْطَاعَ ویسطیع بھی کہا جاتا ہے۔ الطَّوَاعَة: الطوع کا مصدری اسم۔ الطَّوَاعِيَة: طاعت فرمانبرداری کہا جاتا ہے۔ فلانٌ حسنُ الطواعية: فلاں ایک اچھا فرمانبردار ہے۔ الطَّاعُ و الطَّوْعُ و الطَّيِّع: تابعدار، فرمانبردار، مطیع کہتے ہیں۔ هو طوعُ يدك: وہ آپ کا تابعدار ہے۔ فرسٌ طوع العِنان: تابعدار اور نرم گھوڑا۔ عَمِلَہٗ طوعًا: اس نے وہ کام بخوشی کیا۔ المِطْوَاع و المِطْوَاعَة: مطیع، فرمانبردار، تابعدار۔

۲- أَطَاعَ الشجرُ: درخت کے پھلوں کا پکنا۔

۳- تَطَوَّعَ بالشيءِ: کوئی چیز عطیہ کے طور پر دینا۔ المُتَطَوِّع و المُطَّوِّع: واجبات اور فرائض کے علاوہ دیگر اعمال صالحہ کو بطور نفل ادا کرنے والا، رضا کار۔ المُطَّوِّعَة: رضا کار، والنفیر، جہاد میں اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر شامل کرنے والا۔

○ تَطَوَّعَ خيرًا: رضاکارانہ طور پر عمل صالح بجالانا۔ طَوْعًا: رضا کارانہ طور پر، اپنی مرضی سے، برضا و رغبت طَوْعًا او كرهًا: خوشی سے یا ناخوشی سے، خواہی نخواہی، مرضی ہو یا نہ ہو۔ طَوْعُ العنان: آسانی سے قابو میں آجانے والا، اثر پذیر، تاثر پذیر، مطیع، اطاعت شعار، تربیت پذیر، اطاعت پذیر۔ طَوْعُ يده: کے زیر اثر، کے تابع فرمان، کے حکم کے ماتحت۔ هو طوع ايدينا: وہ ہمارے حکم کے ماتحت ہے۔ طوعُ امرك: آپ کے ہاتھ میں، آپ کے سپرد، آپ کی تحویل میں۔ طوعيًا: برضا کارانہ طور پر، اپنی مرضی سے۔ السمعُ و الطاعة: میں سنتا ہوں اور تعمیل کرتا ہوں، آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں، آپ کی خدمت پر کمر بستہ ہوں۔ سمعًا و طاعةً بمعنی السمع و الطاعة۔ عَنْ طواعية: برضا کارانہ طور پر، اپنی مرضی سے۔ طائعًا او كارهًا: خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قدرَ المستطاع: جہاں تک ممکن ہو/ ہوا، جہاں تک قابل عمل ہو/ ہوا۔ بقدر المستطاع اور على قدر المستطاع بمعنی قدرَ المستطاع

طاف ا- طَافَ ۔طَوْفًا و طَوَافًا و طَوَفَانًا بالمكان و حوله: کسی جگہ کے چاروں طرف یا اردگرد گھومنا، چکر لگانا۔ في البلاد: ملک میں پھرنا۔ ___ طوفًا به الخيالُ: کو خواب میں کوئی وہمی صورت نظر آنا۔ طَوَّفَ تَطْويفًا و تطوافًا: کے گرد چکر لگانا۔ -- في البلاد: ملک میں پھرنا۔ بالشيء و حوله: کے گرد بہت چکر لگانا۔ الناسُ او الجرادُ: آدمیوں یا ٹڈیوں کا زمین کو بھر دینا۔ أَطَافَ بالشيء: پر نازل ہونا، کا احاطہ کرنا، کے قریب ہونا۔ به: کے پاس رات کو آنا۔ عليه: کے

پاس رات کو آنا۔ کے گرد چکر لگانا۔ تَطَوَّف بالشیء و حولہ: کے گرد بہت چکر لگانا۔ اِسْتَطَافَ اِسْتِطَافَۃً ہُ: کے گرد چکر لگانا۔ ۔ بالشیء و حولہ: کے گرد بہت چکر لگانا۔ الطَّوْفُ: پانی پر تیرنے والی چیز، پھولی ہوئی مشکوں یا شہتیروں کو جوڑ کر سواری یا بار برداری کے لئے بنائی ہوئی کشتی۔ ۔ ج اَطْوَاف: رات کو پہرہ دینے والے چوکیدار دیوار۔ الاطواف الضرفیۃ (ا ع): ربڑ کی بنی ہوئی برتنوں کی شکل کی تیرنے والی اشیاء۔ الطَّاف: بہت طواف کرنے والا، بہت چکر لگانے والا۔ الطُّوفَان: سخت بارش، سخت سیلاب، رات کا سخت اندھیرا، تباہ کن موت۔ من کل شیء: ہر ایک چیز کا زیادہ۔ الطَّائِف (فا): چوکیدار۔ الطائفۃ جمع طائفات و طوائف: الطائف: کا مونث۔ الطَّوَّاف: بہت چکر لگانے والا بہت پھرنے والا، خادم، مشکوں یا شہتیروں کو جوڑ کر بنائی ہوئی کشتی کا مالک۔ ایسی کشتی بنانے والا۔ الطَّوَّافَۃ: فلوٹ لائٹ Float light۔ المَطَاف: چکر لگانے کی جگہ۔

۲۔ الطائفۃ جمع طَائِفَات و طَوَائِف: گروہ، ٹکڑا، ہم رائے، ہم مسلک لوگ۔

○ طَافَ۔ طَوْفًا و طُوَافًا و طَوَفَانًا: کے اردگرد جانا، چلنا، سفر کرنا، حرکت کرنا، پھرنا، ادھر ادھر پھرنا، مارے مارے پھرنا، کے چاروں طرف دوڑنا، کی سیاحت کرنا۔ ب / حول: کے اردگرد یا چاروں طرف جانا، چلنا، دوڑنا اور سفر کرنا۔ علی: لوگوں میں آنا جانا۔ ب / حول: کے گرد پھرنا، گھومنا۔ ب: کو ادھر ادھر پھرانا، کی رہنمائی کرنا، کو مختلف جگہیں دکھانا۔ ۔ ب: سے آگاہ ہونا، کو جاننا۔ طاف طوفًا ب: کے خواب میں نظر آنا۔ علی: پر ٹوٹ پڑنا، اچانک حملہ آور ہونا، کو ایذا دینا، تکلیف میں ڈالنا، دکھ پہنچانا۔ ۔ دریا کا اپنے کناروں کے اوپر سے بہنا۔ طَوَّفَ فی: میں ادھر ادھر جانا، چلنا، ٹہلنا، سیر کرنا، سفر کرنا، سیاحت کرنا۔ ۔ ب: کے چاروں طرف جانا یا چلنا۔ ہ / ب: کو مختلف مقامات دکھانا، کی راہنمائی کرنا۔ طَوَّافَۃ: گشتی کشتی (patrol Boat) آل (اِنْتَهَى) بِہِ المطاف: پر منتہی ہونا، ختم ہونا، انجام کار پر پہنچنا۔ خاتمۃ المطاف: کا نتیجہ۔ طاف بہ طائف: کو فوراً ترنگ یا تحریک ہوئی یا خواہش ہوئی۔ طاف علیہ طائف من القدر القاسی۔ المیہ اس پر آ پڑا۔ الطَّائِف (سعودی عرب کا ایک شہر) مُلوكُ الطوائف: چھوٹے چھوٹے بادشاہ۔ طائفی: جتھابندی کا، فرقہ وارانہ۔ طَائِفِیَّۃ: فرقہ واریت۔ مُطَوِّف: مکہ معظمہ میں حاجیوں کا گائڈ۔

طاق: ۱۔ طَاقَ۔ طَوْقًا و طَاقَۃَ الشیء: پر قادر ہونا۔ طَوَّقَ ہُ الشیءَ: کو کسی کام کی تکلیف دینا۔ اَطَاقَ الشیءَ: پر قادر ہونا۔ علی الشیء: پر قادر ہونا۔ الطاقۃ: قدرت، طاقت (کہا جاتا ہے۔ لا تُحَمِّلْنَا مالا طاقۃ لنا بہ: ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کا اٹھانا ہم پر دشوار ہو) دھاگے کی ایک لڑی، بالوں کا گچھا، پھولوں کا گلدستہ۔ الطاقۃ الکھربائیۃ: برقی قوت کسی جسم کی طاقت یعنی کام جسے جسم کر سکے۔ الطَّوْق: قدرت، طاقت کہا جاتا ہے۔ ھذا فی طوقی: یہ میری وسعت میں ہے۔

۲۔ طَوَّقَ ہُ الطَّوْقَ: کو طوق پہنانا، کہا جاتا ہے۔ طَوَّقَہُ بالسیف وغیرہ: اس نے اسے تلوار وغیرہ باندھ دی۔ تَطَوَّقَ: طوق پہننا۔ ت الحَیَّۃ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ اِطَّوَّقَ: طوق پہننا۔ الطَّاق جمع طاقات و طِیقان: محراب، طاقچہ (فارسی لفظ) الطاقۃ: دیوار میں بنی ہوئی کھڑکی (عام زبان میں) طَابِقُ کل شیءٍ: گھیرا۔ الطَّوْق جمع اَطْوَاق: گلے کا ایک زیور، گردن۔ المُطَوَّقَۃ: کنٹھی دار کبوتر، بڑی بوتل جس کی گردن طوق دار ہو۔

۳۔ الطاق: ایک قسم کا کرتہ۔ و الطائق: پہاڑ کی نکلی ہوئی چٹان۔

○ طاق۔ طَوْقًا ہ: کچھ کرنے کے قابل ہونا، کچھ کر سکنا، کو برداشت کرنے یا کا سامنا کرنے کی استطاعت رکھنا، کو برداشت کرنا۔ طَوَّقَ ہ: کی گردن میں ہار ڈالنا، طوق ڈالنا۔ ہ: کو کڑا ڈالنا۔ ہ / ہ ب: کو سے گھیرنا، کو آنکڑا لگانا، کے گرد کا حلقہ ڈالنا۔ طوّقہ بذراعیہ: کو اپنے بازوؤں میں لینا، گلے لگانا، سے معانقہ کرنا۔ طوق عنقہ ب: کو تحفہ دینا، کو کچھ عطا کرنا۔ لم یُطِقْ صبرا: وہ اسے برداشت نہ کر سکا، وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ شیءٌ لایطاق: ناقابل برداشت چیز۔ طوقٌ للنجاۃ: بچاؤ پہیہ۔ اخرجہ الحُزْنُ عن طوقہ: دکھ نے اسے بےخود کر دیا۔ فی الطاقۃ: ممکن ہے۔ قدرَ الطاقۃ: جہاں تک ممکن ہے، ممکن حد تک بہترین طریقہ سے۔ علی قدر طاقتہ: اسکی قابلیت کے مطابق، مقدور بھر۔ طاقۃٌ مُدَّخَرَۃ: جمع شدہ توانائی۔ الطاقۃ الذَّرِّیَّۃ: ایٹمی توانائی۔ طاقۃ انتاجیۃ: پیداواری طاقت، وسعت، گنجائش، پیداوار کی صلاحیت۔ مُطَاق: قابل برداشت۔ طوکیو: جاپان کا ایک شہر۔

طال: ۱۔ طَالَ۔ طُولًا: دراز ہونا، لمبا ہونا۔ طَوَّلَ ہ: کو لمبا کرنا۔ لہ: کو مہلت دینا۔ للدابۃ: چرنے کے لئے

جانور کی رسی ڈھیلی کر دینا۔ طَاوَلَ مُطَاوَلَۃً ہُ: پر لمبائی میں غالب آنا، سے زیادہ لمبا ہونا، کو ٹال مٹول کرنا۔ أَطَال اطالۃً ہُ: کو لمبا کرنا۔ ت المرأۃ: عورت کا دراز قامت بچے جننا۔ اَطْوَلَ اِطْوَالًا ہُ: کو لمبا کرنا۔ تَطَاوَلَ: لمبائی ظاہر کرنا، دور کی چیز دیکھنے کے لئے کھڑے کھڑے گردن بلند کرنا۔ علیہ العمرُ: کی عمر بڑھنا۔ اِسْتَطَالَ اِسْتِطَالَۃً: لمبا ہونا۔ الطُّوْل (مص) جمع اَطْوَال: اونچائی ودرازی، (کوتاہی کی ضد) لمبائی (چوڑائی کے مقابلہ میں) طُوْلُ مکان ما من الارض (فلک): طول البلد، خط طول البلد، الطول السماوی: خط نصف النہار (سورج یا ستارے کا عروج، نقطہ اعتدال ربیعی۔ الطُّوَل و الطِّوَل و الطِّیَل و الطِّیَال: لمبا عرصہ، زمانہ کی لمبائی کہا جاتا ہے۔ لا افعلہ طِوَال الدھر: میں یہ زندگی بھر نہیں کروں گا۔ الطُّوَل (ح): لمبی ٹانگوں کا ایک آبی پرندہ۔ الطُّوَال م طُوَالَۃ: لمبا، دراز۔ الطُّوَّال: بہت لمبا۔ الطَّوِیْل جمع طِوَال و طِیَال م طَوِیْلَۃ جمع طَوِیْلَات: لمبا کہا جاتا ہے۔ فلانٌ طویل الباع: فلاں سخی ہے۔ ھو قصیر الباع: وہ بخیل ہے۔ الطِّیْلَۃ: عمر (کہا جاتا ہے۔ اَطَال اللّٰہ طیلتَہُ: اللہ اس کی عمر دراز کرے) زمانہ کی لمبائی۔ الاَطْوَل: جمع اَطَاوِل م طُوْلَی جمع طُوَل: اسم تفضیل، زیادہ لمبا، لمبا ترین۔ السَّبْعُ الطُّوَل: قرآن کریم کی سات بڑی سورتیں۔ الطَّاوِلَۃ: چوبی میز (اٹلی کا لفظ) المِطْوَل جمع مَطَاوِل: رسی، لگام۔

۲۔ طَالَ۔ طَوْلًا علیہ: پر غالب ہونا، فخر کرنا، پر احسان کرنا۔ طَاوَلَ مُطَاوَلَۃً ہُ: پر فضل واحسان میں غالب آنا۔ تَطَوَّلَ تَطَوُّلًا علیہ: پر احسان کرنا۔ تَطَاوَلَ: تکبر کرنا، فخر کرنا، ظلم کرنا۔ تطاولا: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، باہم مقابلہ کرنا۔ اِسْتَطَالَ اِسْتِطَالَۃً: تکبر کرنا۔ ۔ علیہ: پر فضل واحسان کرنا۔ علی عِرضہ: کسی کا عیب مشہور کرنا، اسے رسوا کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ استطالوا علی القوم: لوگوں کو اس سے زیادہ قتل کرنا جتنا انہوں نے قتل کیا تھا۔ الطَّوْل: قدرت، غنا، فضل، بخشش۔ الطَّائِل و الطَّائِلَۃ جمع طَوَائِل: قدرت، غنا، فضل کہا جاتا ہے۔ ھذا امرٌ لا طائل فیہ: اس کام میں کوئی منفعت نہیں۔ ماھو بطائلٍ اوھو غیرُ طَائِل: وہ برتر نہیں یا وہ گھٹیا ہے۔ (مذکر مونث) کہا جاتا ہے۔ بینھم طائلۃ: ان کے درمیان دشمنی ہے۔ الطُّوْلَی: بلند مرتبہ۔ یا حالت۔ طال بہ الزمن حتی: ایسا کرنے میں بہت عرصہ لگا۔

یطول بی هذا: یہ میرا بہت وقت لے گا۔ طال الزمانُ او قصر: کبھی نہ کبھی، دیر سویر، جلد یا بدیر، جلد ہی۔ طَوَّل بالَهٗ علیه: کو برداشت کرنا۔ أَطَالَ علیه: کو بہت انتظار کرانا۔ اَطَال لسانه: گفتگو میں شوخ ہونا، گستاخ ہونا۔ اَطَالَ النظرَ اِلَیْهِ: کو گھورتا رہنا، تکتا رہنا، کو ٹکٹکی باندھے کے دیکھتے رہنا۔ أطال الوقوف: لمبا عرصہ قیام کرنا۔ استطال علی: کی جانب متکبرانہ رویہ کا اظہار کرنا۔ طالَما و لطالما: اکثر۔ طالَما أَنَّ: حالانکہ۔ طالما: جب تک So long as , as long as طالما فعل کذا: اس نے بہت عرصہ یہ کام کیا۔ صاحب الحول و الطَّوْل: اللہ تعالیٰ۔ طُول الأَنَاة: صبر سے برداشت کرنا، برداشت، صبر۔ طُولُ النظر: بعید النظری۔ خط الطول: خط طول البلد۔ طول البلد کا درجہ۔ خط نصف النہار۔ بالطول وطولاً: لمبان میں۔ طُولَ: کے دوران، کے ہر حصہ میں (میں) ہر جگہ، ایک سرے سے دوسرے سرے تک، سراسر۔ طُولَ هذه المدة: اس عرصہ کے دوران، اس تمام عرصہ کے دوران۔ طُولَ النهار: دن بھر۔ طُولَ ما: جب تک۔ علی طول: کے کنارے کے ساتھ، کے شانہ بشانہ (کے) پہلو بہ پہلو۔ علی طُول: سیدھا آگے، براہ راست، آخر کار، انجام کار، بالآخر، بہرحال، بہرصورت۔ فی طول البلادِ و عرضها: ملک بھر میں، تمام ملک میں۔ انا فی طولِكَ: مجھ پر رحم کیجئے۔ خط طُولی: خط طول البلد، طول البلد کا درجہ، نصف النہار۔ طَوَالَ: کے دوران، کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، کے کنارے کے ساتھ ساتھ۔ طویلاً: دیر تک، تادیر۔ طویلُ الاجل: طویل مدت کا۔ طویلُ الاناة: صبر سے برداشت کرنے والا، صابر۔ طویلُ الباع: طاقت ور، قابل، لائق، سخی، فراخ دل، فیاض، روادار، بے تعصب۔ طویل الروح: صابر، برداشت کرنے والا۔ طویل القامة: دراز قد۔ طویل اللسان: گستاخ، شوخ، اپنے کئے پر نادم نہ ہونے والا۔ طِیلَةَ: کے دوران، کے ہر حصہ میں، میں ہر جگہ۔ طائِل الصَّوْلَة: طاقت ور، قوی، زوردار۔ دونَ طائِلٍ اور لاطائِلَ تحته (یا) فیه: بے فائدہ، فضول، بے کار۔ ما فاز بطائل: کچھ نہ کرنا، ناکام ہونا۔ وقَعَ تحت طائلة القانون: قانون کے ذریعے سزا کا مستوجب ہونا۔ تحتَ طائلةِ الموت: زیر سزائے موت، under penalty of Death مُطَوَّل: مفصل، جامع، تفصیلی، قرائتی۔ مُتَطَاوِل: طول طویل، طول پکڑ جانے والا، بہت وسعت دیا جانے والا۔ مُستطیل: لمبا، مستطیل، دیدہ دلیر، شوخ چشم۔ طُولکرم: شمال مغربی اردن کا ایک شہر۔ طومار جمع طوامیر: لپٹا ہوا کاغذ، کاغذوں کی ریل، طومار۔

طوی: ۱۔ طَوَی ـِ طَیًّا الثوبَ: کپڑا لپیٹنا۔ ـــ اللّٰهُ عُمرَهٗ: اللہ کا کسی کو موت دینا کہا جاتا ہے۔ طُوِیَ فلانٌ وهو منشورٌ: جب کسی کا اچھا نام اور ذکر حسن باقی رہے۔ البلادَ: ملک طے کرنا۔ ـــ البئرَ: پتھروں سے کنواں بنانا۔ تَطَوَّتِ الحیَّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ انْطَوَی: لپیٹا جانا۔ ـــ القومُ علیه: کے گرد جمع ہونا۔ اِطَّوَی: لپیٹا جانا۔ الطُّوَی و الطِّوَی: لپٹی ہوئی چیز۔ الطَّوَی: مشک ـــ الطِّیَّة: لپیٹنے کی شکل، گوشہ، طرف کہا جاتا ہے۔ لقیتهٗ بطِیَّاتِ العراق: میں عراق کے نواح اور اطراف میں اس سے ملا۔ الطَّوِیّ جمع أَطْوَاء: گیہوں کی لوری، رات کا ایک پہر، رات کی ایک گھڑی۔ ـــ و الطَّوِیَّة: پتھروں سے بنا ہوا کنواں۔ الأَطْوَاء: (واحد طَوًی) ٹڈی کی دم کا بل یا پیچ۔ المَطْوَی جمع مطاوی الامعاء او الحیة او الثوب کا واحد: آنتوں کا بل، سانپ کی کنڈلی یا کپڑے کا پیچ۔ اُسترا: (عام زبان میں) المِطْوَی: جس پر کتا ہوا سوت لپیٹا جائے۔

۲۔ طَوَی ـِ طَیًّا کَشْحَهٗ علی الامر: کوئی بات چھپانا کہا جاتا ہے: طوی کشحه عنی: اس نے مجھ سے پہلو تہی کی، مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ـــ الحدیثَ: بات چھپانا۔ الطَّیّ (مص): طیّ الشیء: ضمن لپیٹ کہا جاتا ہے۔ الغیّ فی طی قلبه: گمراہی اس کے دل کے اندر ہے۔ الـطِّیَّة: ضرورت، غرض، مقصد، حاجت، ضمیر، نیت کہا جاتا ہے۔ فلانٌ حسنُ الطویة: فلاں شخص اچھی نیت اور ضمیر والا ہے۔ مَضَی لِطِیَّتِهٖ: وہ اپنی نیت پر کاربند ہوا۔

۳۔ طَوَی ـِ طَیًّا الرجلُ: بھوکا رہنے کا ارادہ کرنا۔ ـــ السیرُ فلانًا: سفر کا کسی کو کمزور کر دینا۔ طَوِیَ ـَ طَوًی و أَطْوَی: بھوکا ہونا۔ صفت طَیَّان وطَوٍ و طَاوٍ م طَیَّا و طَوِیَة و طاوِیة الطَّوَی: بھوک۔ طاوی البطن: پتلے پیٹ والا۔

۵۔ الطَّایَة جمع طایات: سطح، چھت۔ الطَّوَایَة: فرائی پان (Frying pan)۔

○ طَوَی ـِ طَیًّا (ہ) کو تہ کرنا، لپیٹنا۔ ہ: (کتاب) بند کرنا۔ ہ: کو صیغہ راز میں رکھنا، چھپانا۔ ـــ ہ: پر مشتمل ہونا۔ ـــ ہٗ: (رات کی تاریکی کا) کسی کو چھپا لینا، نگل لینا۔ ـــ ہ: ماضی کو دفن کرنا، آخر کار فیصلہ کرنا۔ ـــ ہ: (ملک میں سے) گزرنا یا کے پار جانا (کے) مشرق سے مغرب تک سفر کرنا، کو قطع کرنا۔ ہ الی: جلدی سے (راستہ، فاصلہ) طے کر کے (کھلی جگہ یا شخص کے پاس) جانا۔ ـــ ہ (عرصہ) گزارنا۔ ہ: کا قبضہ لینا، کو لے لینا۔ طوی الارض طیًّا: زمین میں تیزی سے گزرنا۔ طوی بساطَهٗ: ختم ہو جانا۔ طوی البساط بما فیه: کسی معاملہ کا ہمیشہ کے لئے فیصلہ کر دینا۔ طوی جوانِحَهٗ علی: اپنے دل میں کچھ چھپانا۔ طوی کَشْحَهٗ (کَشْحًا) علی اور طوی صدره علی: کو صیغہ راز میں رکھنا، سینے میں چھپا لینا۔ طوی صفحتهٗ: کچھ ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ طوی الطریق الی: کی طرف تیزی سے جانا۔ طوی الماضی طی السجل للکاتب: ماضی سے ناطہ توڑنا، گزشتہ را صلوات کہنا۔ انطوی علی نفسه: خود کو اپنے آپ میں مگن کرنا۔ طیَّهٗ و طیَّ هذا: اس کے ساتھ منسلک یا ملفوف ہے۔ فی طیّ الغیب: پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر، تحت۔ (فی) طی الکِتْمان: صیغہ راز میں۔ فی أطواء: میں۔ حَمَلَ بین طیَّاته: پر مشتمل ہونا۔ مضی (ذهب) لِطِیَّتِهٖ: وہ منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا، وہ اپنے راستہ پر چلا گیا، وہ روانہ ہوا تا کہ وہ کام کرے جو دل میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ علی الطَّوَی: خالی پیٹ، کچھ کھائے بغیر۔ سلیم الطَّوِیَّة: بھولا بھالا، بے ریا، سیدھا سادھا۔ سادہ لوح۔ فی طوایا: کے اندر، میں۔ طوَّایة: فرائی پان۔ جمع طوَّایات۔ مِطْوًی جمع مَطَاوٍ: جیب کا چاقو، قلم گھڑنے والا چاقو، قلم تراش۔ جمع مطاوی: جھمیں، شکنیں۔ فی مطاوِی: کے اندر، میں۔ فی مطاویه: دلی طور پر، دل میں۔ مِطْوَاة: جیب کا چاقو، قلمیں گھڑنے والا چاقو، قلم تراش۔ طاوٍ: بھوکا۔ طاوی البطن: بھوکا، کمزور، مضمحل۔ مَطْوِیّ: لپٹا ہوا، تہ کیا ہوا۔ مطوی علی: پر مشتمل۔ مَطْوِیُّ الضلوع علی: کچھ دل میں رکھے ہوئے۔ مُنْطَوٍ علی نفسه: اپنے آپ میں منہمک، مستغرق، افسردہ دل، غمزدہ۔

طاب: ۱۔ طَابَ ـِ طِیبًا و طَابًا و طِیبَةً و تَطْیَابًا: مزیدار، میٹھا، عمدہ اور اچھا ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو اچھا بنانا یا پانا۔ ـت النفسُ بکذا: سے دل کا خوش ہونا۔ عیشُهٗ: خوش گزران ہونا۔ ـت الارضُ: زمین کا گھاس اگانا۔ طَیَّبَ خاطرَهٗ: کے دل کو تسلی دینا، مطمئن کرنا۔ الشیءَ: کو اچھا بنانا یا پانا، کو خوشبو لگانا۔ طَایَبَ مُطَایَبَةً ہٗ: سے مذاق کرنا، کھیلنا وغیرہ۔ أطَابَ اطابةً: اچھی اور شیریں گفتگو کرنا۔ ـــ الشیءَ: کو اچھا

کرنا۔ أَطْيَبَ اطيابًا الشيءَ: کو اچھا پانا۔ تَطَيَّبَ بالطِيب: اپنے آپ کو خوشبو لگانا۔ اِسْتَطَابَ اسْتِطَابَةً القومَ: سے میٹھا پانی مانگنا۔ وإسْتَطْيَبَ اِسْتِطْيَاباً الشيءَ: کو اچھا پانا۔ الطَّاب (مص): اچھا، لذیذ، مزیدار۔ الطَّابَة: شراب۔ الأَطْيَب جمع أَطَايِب م طُوبَى جمع طُوبَيات اسم تفضیل زیادہ لذیذ، زیادہ میٹھا وغیرہ۔ الأَطَايِب من الشيء: نہایت عمدہ اشیاء۔ الطُّوبَى: رشک، سعادت، خیر، خوشی کہا جاتا ہے۔ طُوبَى لك: خوش رہو، خوش نصیب ہو۔ طُوبَاك: خوش رہو، خوش نصیب ہو۔ الطِّيب (مص) بہترین چیز، حلال کہا جاتا ہے۔ هذا طِيبٌ لك یہ تمہارے لئے حلال ہے۔ جمع أَطْيَاب و طُيُوب خوشبودار اشیاء۔ الطِّيبَة (مص): حلال۔ طِيبَةُ الخمر صاف شراب، کہا جاتا ہے۔ فعلت ذلك بطيبةٍ یہ میں نے اپنی خوشی سے کیا۔ الطُّيَّاب: بہت پاکیزہ۔ الطَّيِّب م طَيِّبَةٌ جمع طَيِّبات و طُوبَى پاکیزہ، اچھا، حلال کہا جاتا ہے۔ كلمةٌ طَيِّبَةٌ: اچھی بات۔ بلدة طَيِّبَة: پرامن اور بڑی برکتوں والا شہر۔ المَطَايِب من الشيء: بہترین چیزیں۔ شرابٌ مَطْيَبَة: خوشگوار مشروب۔

۲۔ طَابَ ـِ طِيبا و طَابًا و طِيبَةً و تَطْيَاباً عن الشيء نفساً: کو خوشی سے چھوڑ دینا۔

۳۔ الطَّابَة چمڑے یا ربڑ کی گیند (ترکی لفظ) الطابية عند الموارنة: پادری کی ٹوپی۔

○ طَابَ ـِ طِيبًا و طِيبَةً: اچھا ہونا، خوشگوار ہونا، خوشکن ہونا، مسرت بخش، راحت بخش ہونا یا ہو جانا، لذیذ ہونا یا ہو جانا۔ لِ کو پسند آنا، کو بہت اچھا لگنا، کی پسند کا ہونا۔ — پکنا، پکا ہونا یا پک جانا، دوبارہ صحت مند ہو جانا۔ طابت ليلتكم تمہاری رات خوشگوار ہو۔ گڈ نائٹ۔ طابت نفسه۔ خوش ہونا، خوشی محسوس کرنا، خوش باش ہونا۔ طاب نفساً عن: کو خوشی سے ترک کر دینا۔ طابت نفسهُ اليه: کو پسند کرنا، کے ذوق کے مطابق ہونا۔ طَيَّبَ خاطرَه: کو تسلی دینا، کا غصہ ٹھنڈا کرنا، منانا، راضی کرنا۔ طَيَّبَ اللّٰه ثَرَاهُ: اللہ اسکی زمین کو ہلکا کرے۔ طَيِّبُ العرق: عالی خاندان۔ جوز الطِّيب: جائفل۔ طَيِّبُ الخُلق: نیک طبیعت، ملنسار، خوش مزاج۔ طَيِّبُ الرائحة: خوشبو دار۔ طَيِّبُ العرق: عالی خاندان کا۔ طَيِّبُ النفس: خوش، زندہ دل، ہنس مکھ۔ طَيِّبَات: عمدہ خوشگوار چیزیں۔ عن طِيبَةِ خاطر: خوشی سے۔ طِيَاب: شمالی ہوا۔ طَيَّاب: مالشیا، مالش کرنے والا۔ مطايب: آسائشیں، زندگی کے مزے۔ مُطَايَبَة جمع مُطَايبات: چھیڑ چھاڑ، دل لگی، مذاق، ہنسی، دق کرنے والی باتیں۔ طائب لِ: کے لئے نا قابل اعتراض۔ مُطَيِّب: گل دستہ۔

طاح: طَاحَ ـِ طَيْحًا: گمراہ ہونا، تباہ ہونا، سرگرداں ہونا۔ طَيَّحَ هُ: کو ہلاک کرنا۔ الشيءَ: کو ضائع کرنا۔ أَطَاحَ هُ: کو ہلاک کرنا۔ تَطَايَحَ الشيءُ: بکھرنا۔ الطَّيْحَة: اسم مرۃ تباہی کہا جاتا ہے۔ أصابتهم طَيْحَةٌ: ان کو ایسے امور پیش آئے جنہوں نے ان میں تفریق پیدا کر دی۔ طَوَّحَتْهُم طَيْحات: افسوسناک حوادث نے انہیں ہلاک کر دیا۔

طاخ: ۱۔ طَاخَ ـِ طَيْخًا: گندا ہونا، برائی سے آلودہ ہونا، باطل میں منہمک ہونا۔ الامرَ: کام خراب کرنا۔ — هُ: کو برائی سے آلودہ کرنا۔ طَيَّخَ أَصْحَابَه: کو گالی دینا۔ — ہ: کو قبیح بات میں آلودہ کرنا۔ تَطَيَّخَ: برائی سے آلودہ ہونا۔ الطَّيْخَة: فتنہ۔

۲۔ طَاخَ ـِ طَيْخًا: تکبر کرنا۔

۳۔ الطَّيْخَةُ و الطَّائِخ و الطَّيَّاخ: بے وقوف، بے برکت۔

طار: ۱۔ طَارَ ـ طَيْراً و طَيَرَاناً و طَيْرُورَةً: ہلکا ہونا، تیز رفتار ہونا۔ الطائرُ: پرندہ کا ہوا میں اڑنا۔ بكذا: کچھ کرنے میں جلدی کرنا۔ سابق ہونا۔ — الى كذا۔ کی طرف دوڑنا کہا جاتا ہے۔ طَارَ طائِرُه: غضبناک ہونا، طیش میں آنا۔ طَيَّرَ نومَهُ: کی نیند اڑا دینا۔ — ہ و طَيَّرَ به: کو اڑانا۔ طَايَرَ مُطَايَرَةً و أَطَارَ اطارةً هُ: کو اڑانا۔ تَطَيَّرَ واطَّيَّرَ بالشيء ومنه: سے بدفال لینا، برا شگون لینا۔ اسْتَطَارَ اسْتِطَارَةً الطيرَ: پرندہ اڑانا۔ السيفَ: جلدی سے تلوار نکالنا۔ اُسْتُطِيرَ: جلدی سے لے جایا جانا، گویا پرندے اسے اٹھائے ہوئے ہوں۔ خوف زدہ ہونا۔ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔ الطائِر (فا): جمع طَيْر و طُيُور و أَطْيَار: پرندہ کہا جاتا: هو ميمون الطائر: وہ مبارک چہرے والا ہے۔ سِر على الطائِر الميمُون: مبارک شگون پر چل (مسافر کے لئے دعا) ساكِنُ الطائِر: بردبار، متحمل، سنجیدہ، آدمی۔ طَارَ طائِرُ فلانٍ: غضبناک ہونا، یا جلدی کرنا۔ الطائر جس سے نیک یا بدشگون لیا جائے، قسمت، انسان کا رزق۔ الطائِرة جمع طائِرات: ہوائی جہاز۔ طائرة الطِراد: دشمن کا تعاقب کرنے والا ہوائی جہاز۔ الطائِرةُ النفّاثة: جٹ طیارہ (Get plane) الطائرة النافورية. تیز رفتار طیارہ۔ الطائرة القانصة: ہنٹر طیارہ۔ طائرة الانقضاض: غوطہ زن بمبار طیارہ۔ القاذفة الطائِرة: بڑا بمبار طیارہ۔ الطَّيْر (مص): (طائر کی جمع مگر کبھی ایک کے لئے بھی آتا ہے) کہا جاتا ہے۔ كأنَّ على رؤوسهم الطيرَ: وہ دم بخود ہیں جیسے ان کے سر پر کوئی پرندہ ہو۔ اُزْجُر احناءَ طيرك: اپنی خفت اور غصہ کو دور کر۔ لا طيرَ الا طيرُ اللّٰه جیسے کہا جاتا ہے لا امرَ الا امرُ اللّٰه و طيرُ اللّٰه لا طيرُك جیسے کہا جاتا ہے صباحُ اللّٰه لا صباحك۔ التَّطَيُّر کا اسم۔ الطِّيَرَة و الطِّيْرَة: بدفالی لینے کی چیز۔ الطَّيْرَة و الطَّيْرُورَة: طیش، ہلکاپن کہا جاتا ہے۔ اياك و طيرات الشباب: جوانی کے طیش سے بچ۔ الطيران (فص): اڑان، ہوابازی۔ — الحربي: جنگی ہوابازی۔ المدني: شہری ہوابازی۔ مصلحة الطيران: ہوابازی کا محکمہ۔ الطُّوَيْر: طیر کا مصغر۔ الطَّيَّار جمع طَيَّارُون: ہواباز، پائلٹ۔ من الخيل چست اور تیز خاطر گھوڑا۔ الطَّيَّارة: طیار کا مونث، ہوائی جہاز۔ المُطَار من الخيل: چست چالاک اور تیز خاطر گھوڑا۔ المَطَار: اڑنے کی جگہ، ہوائی اڈا۔ ارضٌ مَطَارة: بہت پرندوں والی جگہ۔

۲۔ طَارَ ـِ طَيْراً و طَيَرَاناً و طَيْرُورَةً صيتُهُ: کی شہرت پھیلنا۔ طَيَّرَ و أَطَارَ المالَ: مال تقسیم کرنا۔ تَطَايَرَ: متفرق ہونا۔ السحابُ في السماء: بادل کا آسمان میں سب طرف پھیل جانا۔ انْطَارَ الشيءُ: چیز کا پھٹنا۔ اِسْتَطَارَ اسْتِطَارَةً الشيءُ: متفرق ہونا، منتشر ہونا۔ — الحائطُ: دیوار کا پھٹنا، تڑخنا، دیوار میں دراڑ پڑنا۔ اُسْتُطِيرَ الصَّدْعُ في الحائط: دیوار میں دراڑ کا ظاہر ہونا۔ الطَّيَّار: منتشر۔ المُطَيَّر (مفع): پھٹا ہوا ٹوٹا ہوا۔ المُسْتَطِير (فا): چمکدار اور پھیلا ہوا کہا جاتا ہے۔ صبحٌ مُسْتَطِير چمکدار اور پھیلی ہوئی صبح، اسی طرح بجلی، بڑھاپا اور برائی۔

۳۔ طَارَ ـ طَيْراً طَيَرَاناً و طَيْرُورَةً الشعرُ: بالوں کا دراز دلمبا ہونا۔ تَطَايَرَ الشيءُ: چیز کا لمبا ہونا۔

۴۔ الطائِر (فلك): ستارہ، دماغ۔ الطَّيَّار: ترازو کی زبان، روپے تولنے کی ترازو۔ المُطَيَّر: ایک قسم کی چادر۔

○ طار الى: کی طرف تیزی سے جانا، جلدی جانا، پرواز کرنا (ہوائی جہاز میں کسی جگہ جانا) طار بِخَيالِهِ اِلى: اپنے تصور کو تک بھٹکنے دینا۔ طارله صيت في الناس: اسکی شہرت لوگوں میں پھیل گئی، وہ مشہور و معروف ہو گیا۔ طار طائِرُهُ: غصہ ہو جانا۔ طار عقلُهُ: پاگل ہو جانا، بھوکھلا جانا۔ طار فؤاده (روحه) شعاعا: اس کا دل پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔ طار فرحًا: بہت

خوش ہونا۔ طار بلبّہ: کو پاگل کر دینا۔ طار بصوابہ: کو بیہوش کر دینا۔ طیّر رأسہ: کا سر قلم کر دینا، کا سر اڑا دینا۔ استطیر: خوفزدہ ہونا۔ استطیر عقلہُ: (حیرت یا خوف سے) کوئی بات ذہن سے نکل جانا۔

طَیْر: (اسم جنس) جمع طُیُور و اَطْیار: پرندے، پرندہ، شگون، فال۔ طُیُور: مرغیاں، بطخیں وغیرہ۔ طیور جارحۃ: غارت گر یا شکاری پرندے۔ علم الطیور: پرندوں کا علم۔ کَاَنَّ علی رؤوسھم الطیرَ: رعب سے بے حس و حرکت یا خاموش۔ زیوت طیارہ: اڑ جانے والے تیل۔ طیّار: اڑنے والا، ہوا باز، پائلٹ جمع طیارون۔ طیار اول: ہوائی فوج کا فرسٹ لیفٹیننٹ۔ طیّار تان: ہوائی فوج کا سیکنڈ لیفٹیننٹ۔ طیّارَہ: عورت پائلٹ، ہوائی جہاز، پتنگ۔ طیّارۃ ریاضیۃ: تفریحی ہوائی جہاز۔ طیّارۃ قذافۃ: بمبار طیارہ۔ طیارہ مائیۃ: بحری ہوائی جہاز۔ طَیَران: اڑان، پرواز، ہوابازی، طیرانیات۔ طیران بَھْلَوَانی: خاص کرتب کی پرواز۔ طیران شِراعی: بے انجن پرواز۔ خطُوطُ الطیران: ادارہ طیران۔ سِلاحُ الطیران: ہوائی فوج۔ مَطَار جمع مطارات: ہوائی اڈا۔ مطار عائم: طیارہ بردار۔ مَطیر: ہوائی اڈا۔ تَطَیّر: یاسی، قنوطیت۔ طائر: اڑنے والا، اڑانے والا، ہواباز، پائلٹ، جمع طائِرات و طَیر: پرندہ، شگون، بری فال۔ سکونُ الطائر: سنجیدگی، سنگینی، متانت۔ طائِرہ جمع طائرات: ہوائی جہاز۔ علی متن الطائرہ: طیارے میں، بذریعہ طیارہ۔ طائرہ بحریۃ: بحری ہوائی جہاز۔ طائرۃ دَورِیّۃ: دیکھ بھال کرنے والا ہوائی جہاز۔ طائرۃ المطاردۃ: لڑاکا، تعاقب کرنے والا، راستہ روکنے والا ہوائی جہاز۔ طائرۃ عَمُودِیّۃ: ہیلی کاپٹر۔ طائرۃ القتال: ہلکا بمبار، لڑاکا طیارہ۔ طائرۃ المُقَاتِلَۃ: لڑاکا ہوائی جہاز۔ طائرۃ انقضاضیۃ: غوطہ زن بمبار ہوائی جہاز۔ طائِرہ نفاثۃ: جیٹ طیارہ۔ طائرۃ النقل: بار بردار ہوائی جہاز۔ حاملۃُ الطائرات اور ناقلۃ الطائرات: طیارہ بردار جہاز۔ مُتَطَیِّر: قنوطی۔ مُسْتَطِیر: قریب نزدیک سر پر کھڑا، آنے ہی والا، خطرہ کی اطلاع دینے والا، بکھرا ہوا، پھیلا ہوا، قنوطی۔

طاس: طَاسَ ـِ طَیْسًا الشیءُ: زیادہ ہونا، بہت ہونا۔ الطَّیْس: بڑی تعداد، مٹی، ہر ایک زیادہ نسل کی چیز، جیسے مچھلی، چیونٹی۔

طاش: طَاشَ ـِ طَیْشًا: اوچھا ہونا، سبک سر ہونا، بے عقل ہونا، عقل کھونا۔ السھمُ عن الغرض: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ صفت طَائِش۔ أطَاش اِطَاشَۃً السھمَ عن الغرض: تیر کا نشانہ سے خطا کرا دینا۔ الطَّیّاش و الطائش: جو عقل کی کمزوری کی وجہ سے ایک طریقے پر نہ ٹکے۔ الطَّیْشان: ہلکا پن، اوچھا پن۔

○ طَاشَ ـِ طَیْشًا و طَیَشَانًا: متلون ہونا، بے ثبات ہونا، ناپائیدار ہونا، بے پروا اور غافل ہونا، غیر سنجیدہ ہونا، غیر محتاط ہونا، مذبذب ہونا، پریشان ہونا، بوکھلانا، بے مقصد ہونا (تیر کا) نشانہ سے چوکنا۔ عن الغرض (کے ساتھ بھی اس معنی میں) عن: (ہاتھ کا) کسی جگہ پر نہ لگ سکنا۔ طاش سھمُہ: ناکام ہونا۔ طاش صوابُہ: گھبرا جانا، حواس قائم نہ رہنا۔

طاع: طَاعَ ـِ طَیْعًا: دیکھو۔ طاع۔ طوعا

طاف: طَافَ ـِ طَیْفًا و مَطَافًا الخیالُ: خیال کا خواب میں آنا۔ طَیَّفَ تَطْیِیفًا و أَطَافَ اِطَافَۃً و تَطَیَّفَ تَطَیُّفًا: بہت چکر لگانا۔ الطَّیْفُ (مص): خواب میں آنے والا خیال، غصہ، پاگل پن (ف) رہی صورت، وہم، وہم کی پیداوار، پیکر خیالی۔

طیف spectrum اِلطیاف: رات کی تاریکی۔

○ طَافَ ـِ طَیَفَّاب: کو خواب میں پیکر خیالی کا نظر آنا۔

طیف جمع أطیاف و طُیُوف: تصور، تخیل، وہم، وہمی صورت، وہم کی پیداوار، خواب، سایہ، بھوت، روح، قوس قزح۔ طیف۔ طَیْفِی: بھوت کا سا، طیف پیما کا۔ مِطیاف: طیف پیما۔

طام: طَامَ ـِ طَیْمًا: اچھے عمل والا ہونا۔ اللّٰہُ فلانًا علی الخیر: خداتعالیٰ نے اس کو نیک پیدا کیا ہے۔ الطِیماء: طبیعت، مزاج، افتاد طبع۔

طان: ا۔ طَانَ ـِ طَیْنًا و طَیَّنَ الحائطَ: دیوار کو گارے سے لیپنا۔ الکتابَ: تحریر پر مہر لگانا۔ ـــہُ اللّٰہ علی الخیر: خداتعالیٰ نے اس کو نیک پیدا کیا۔ تَطَیَّن: گارے سے لیپا جانا، گارے سے لتھڑنا۔ الطِّین: گارا، گارا، ریت اور پانی سے ملا ہوا چونہ، گیلی مٹی۔ الطینۃ: گارا، ریت اور پانی سے ملا ہوا چونہ، گارے کا ایک ٹکڑا، نیچر، فطرت۔ یابس الطینۃ: سخت مزاج۔ لہ طینۃُ طیبۃ: اسکی طبیعت نرم ہے۔ مکانٌ طانٌ: بہت گارے والی جگہ۔ الطِیانۃ: گارا بنانے والے کا پیشہ۔ الطَّیّان: گارا بنانے والا۔ الطَّیُّون او الطُّبّاق: ایک قسم کا پودا۔ بحر متوسط کے علاقہ میں بافراط پایا جاتا ہے، اس کے پھول زرد رنگ کے ہوتے ہیں، کسی قدر لیسدار ہوتا ہے اور بودار۔ اس سے پسو مارنے یا روکنے کے لئے جھاڑو بنائے جاتے ہیں۔

ظ

ظ تلفظ ظاء حروف تہجی کا سترہواں اور حرف ابجد میں ۹۰۰ کے برابر ہے۔

ظاب: ۱۔ ظَأَبَ - ظَأْبًا شادی کرنا۔ ظَاءَبَ مُظَاءَبَةً ہٗ: سالی سے شادی کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ تَزَوَّجَا بِالمُظَاءَبَةِ دونوں نے دو بہنوں سے شادی کی۔ تَظَاءَبَا: ہم زلف ہونا۔ الظَّأْب (مص) جمع ظُؤُوب۔ اَظْؤُب: ہم زلف، ساڑھو۔

۲۔ ظَأَبَ - ظَأْبًا ظلم کرنا۔

۳۔ ظَأَبَ - ظَأْبًا: شور کرنا۔ التیسُ بکرے کا میں میں کرنا۔

ظأر: ظَأَرَ - ظَأْرًا و ظِئَارًا الناقة او المرأة علی ولد غیرها: اونٹنی یا عورت کے دل میں کسی دوسری کے بچے کے لئے شفقت ڈالنا اور اس کا اس پر شفقت کرنا صفت۔ ظَؤُور و ظَؤُور جمع اَظْآر و ظُؤَّار -- ہٗ الی کذا: کو پرمہربان کرنا۔ علی عدوّہ اپنے دشمن پر حملہ کرنا۔ ہٗ علی کذا کو کسی پر مہربان کرنا۔ ظَاءَرَ مُظَاءَرَةً الناقة او المرأة علی ولد غیرها اونٹنی یا عورت کے دل میں کسی دوسرے کے بچے کے لئے شفقت ڈالنا۔ ہٗ علی الامر کو کسی کام کے لئے ورغلانا یا کو کسی کام کرنے پر مجبور کرنا۔ ہٗ علی کذا کو پرمہربان کرنا۔ ت المرأة عورت کا دایہ بننا۔ دوسرے کے بچے کی پرورش کرنا۔ الرجل کسی کو دایہ بنانا۔ اِظَّأَرَ اِظِّئَارًا الناقة او المرأة علی ولد غیرها: اونٹنی یا عورت کو کسی دوسرے کے بچے پر مہربان کرنا۔ ہٗ علی کذا کو پرمہربان کرنا۔ اظَّأَرَ لولده ظِئْرًا: اپنے بچے کے لئے دایہ رکھنا۔ الظِّئْر جمع اَظْؤُر و اَظْآر و ظُؤُور و ظُؤُورَة و ظُؤَار دوسرے کے بچہ پر شفقت کرنے والی، دایہ، انّا۔ ظِئْر القصر محل کا ستون۔

الظِّئْرَة تھونی، کھمبا۔ الظُّؤْرَة: دایہ، دودھ پلانے والی۔

○ ظِئْر دایا، انا۔

ظام: ظَاءَمَ مُظَاءَمَةً ہٗ و تَظَاءَمَا تَظَاؤُمًا کا ہم زلف ہونا۔ الظَّأْم ہم زلف، ساڑھو۔ ظبو: الظُّبَة جمع ظُبَات و ظُبًى و ظُبُون و ظِبُون و اَظُب تلوار وغیرہ کی دھار۔ ظُبَة کی اصل ظُبْوٌ ہے۔ واؤ حذف کر کے اس کی جگہ ہاء لائی گئی ہے۔

ظبی: ۱۔ اَظْبَی المکانُ جگہ کا بہت ہرنوں والی ہونا۔ الظَّبْی جمع ظِبَاء و اَظْبٍ و ظُبِیّ و ظَبَیَات (ح): ہرن، ہرنی۔ بہ داءُ الظَّبْی اسے کوئی بیماری نہیں کہتے ہیں۔ اذا اتیتهم فاربض فی دارهم ظبیًا: جب تم لوگوں کے پاس جاؤ تو ان کے گھر ہرن کی طرح ٹھہرنا کیونکہ اگر اسے شک ہو تو وہ وہاں نہیں ٹھہرتا۔ ہرن صرف مرض الموت میں ہی بیماری پڑتا ہے۔ الظَّبْیَة جمع ظِبَاء و ظَبَیَات (ح): ہرنی، بکری، گائے، نوجوان لڑکی (بطور استعارۃ) ہرن کے بال والا چمڑے کا چھوٹا تھیلا۔ ارضٌ مَظْبَاةٌ بہت ہرنوں والی زمین۔

۲۔ الظَّبْیَة وادی کا موڑ۔

○ ظَبْی جمع ظِبَاء غزال ظَبْیَہ جمع ظَبَیَات غزالہ۔

ظرّ: ۱۔ ظَرَّ - مَظَرَّةً: دھار دار پتھر توڑنا۔ الناقة اونٹنی کو دھار دار پتھر سے ذبح کرنا۔ اَظَرَّ دھار دار پتھروں والی زمین میں چلنا، آنا۔ واقع ہونا۔ — المکانُ: جگہ کا دھار دار یا نوکدار پتھروں والی ہو۔ الظِّرّ و الظُّرَر و الظُّرَر جمع ظُرّان و ظِرّان و ظِرَار و اَظِرَّة دھار دار پتھر، چقر۔ الظُّرّان نیزے، بھالے، کلہاڑے وغیرہ شکل پر بنائے ہوئے چقماق کے ٹکڑے جو زمانہ قدیم میں دیا سلائی کی جگہ استعمال ہوتے تھے۔ الظُّرِّیّ او الظُّرّانی نوکدار پتھروں کا پہاڑ۔ ارض ظَرِیرٌ و مَظَرَّةٌ بہت چقماق والی زمین۔ المِظَرَّة جمع مَظَارّ چقماق۔

۲۔ الظَّرِیر جمع ظِرَار و اَظِرَّة و ظُرّان ۂ راستہ دکھانے کے لئے نشان۔

○ ظِر: تیز دھار پتھر، چقماق۔

ظرب: ظَرِبَ - ظَرَبًا بکذا سے چمٹنا۔ الظَّرِب جمع ظِرَاب و اَظْرُب ابھرا ہوا تیز نوک والا پتھر۔ چھوٹا ٹیلہ۔ الظُّرُب من الرجال پست قد موٹا آدمی۔ الظَّرِبان و الظَّرِبَاء جمع ظَرَابِیّ و ظَرَابِین (ح): قطبی بلی، بلی کی طرح کا ایک بدبودار جانور۔ اود بلاؤ کہا جاتا ہے: فسا بینهم الظَّرِبان ان میں نااتفاقی پڑ گئی۔ الظِّرْبَی و الظِّرْبَاء: ظربان کی اسم جمع۔ الاَظْرُب: نواجذ کے پیچھے، چار دانت۔ اَظْرَاب اللجام لگام کی گرہیں، جو اس کے لپے کے اطراف میں ہوتی ہیں۔

ظرف: ۱۔ ظَرُفَ - ظَرْفًا و ظَرَافَةً دانا اور خوش شکل ہونا، ذہین اور ماہر ہونا۔ صفت۔ ظَرِیف جمع ظُرَفَاء و ظِرَاف و ظُرُف و ظُرُوف و ظَرِیفُون م ظَرِیفَة جمع ظَرِیفَات و ظَرَائِف۔ ظَرَفَ - ظَرْفًا و ظَرَافَةً ہٗ سے زیادہ ظریف ہونا کہا جاتا ہے: ظارفنی فظرفتُہٗ اس نے ظرافت میں مجھے شکست دینے کی کوشش کی لیکن میں اس پر غالب آ گیا۔ اَظْرَفَ: خوبصورت ذہین بچوں والا ہونا۔ تَظَرَّفَ و تَظَارَفَ: دانا اور زیرک بننا۔ اِسْتَظْرَفَ ظریف طلب کرنا۔ - ہٗ کو ظریف شمار کرنا یا پانا۔ الظَّرْف (مص) دانائی، مہارت، فوقیت۔ الظِّرَاف و الظُّرَّاف جمع ظُرَفَاء و

ظُرَّافون: ظریف۔

۲۔أَظْرَفَ المتاعَ: کو برتن بنانا۔الظَرْف: برتن کہا جاتا ہے: من الظَرْف جود المهْدی بالظرف: تحفہ دینے والے کا اس برتن کی سخاوت کرنا جس میں تحفہ بھیجا جاتا ہے، ایک دانائی ہے، عام لوگ مشکیزہ کے معنی میں بھی ظرف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔جمع ظُروُف: جگہ یا وقت جیسے دن، جب، جس وقت، پر، نیچے اسی سے ہے۔ظروف الزمان و المَکان: کہا جاتا ہے: هو نقی الظرف: وہ امین اور وفادار ہے۔رأیتُهُ بِظَرْفِهِ: میں نے اسی کو دیکھا، میں نے اسی کو ذاتی طور پر دیکھا۔المَظْرُوف (مفع): برتن میں سمائی ہوئی چیز کہا جاتا ہے: بعثت بالرسائل مظروفةً: میں نے خطوط لفافوں میں رکھ کر بھیجے۔

○ ظَرُفَ -ظَرْفًا و ظرافةً: دلکش، دلربا، دل فریب پسندیدہ، مرغوب ہونا، طرحدار ہونا، وضع دار ہونا، نفیس ہونا، خوبصورت، حسین و جمیل ہونا، شاندار اور خوش وضع ہونا، صاف ستھرا ہونا، بذلہ سنج ہونا، ظریف ہونا، زندہ دل اور شگفتہ ہونا۔ظَرَّفَ ہ / ہ: کو آراستہ کرنا، سجانا، کی آرائش کرنا، کا سنگار کرنا، کی تزئین کرنا، کو جھکانا، شائستہ بنانا، کو دلفریبی، دلکشی، دلربائی، دلیری، دل آویزی عطا کرنا۔-- ہ: کو لفافہ میں رکھنا، ڈھکنا، لپیٹنا، ملفوف کرنا۔تَظَرَّفَ: اپنے آپ کو خوبصورت حسین و جمیل ظاہر کرنا، شستہ ظاہر کرنا، خوش وضع ظاہر کرنا، بذلہ سنج ظاہر کرنا، زندہ دل اور شگفتہ ظاہر کرنا یا بننا۔تَظارف بمعنی تَظَرَّفَ، استَظْرَفَ ہ / ہ: کو بذلہ سنج، دلکش، خوش وضع، چالاک، ہوشیار، مستعد، شاطر سمجھنا یا پانا۔ظَرْف: شستگی، پاکیزگی، حسن و جمال، خوش پوشی، آن، شان، سحر، افسون، زیرکی، چالاکی، ہوشیاری، باتدبیری، بذلہ سنجی، ظرافت۔جمع ظُروُف: برتن، ظرف، کوئی شے رکھنے کے لئے جیسے ڈبہ، بوتل وغیرہ، چیز دان، ڈھکنا، پوش، پوشش، چادر، شال، کھیس وغیرہ (خطوط کا) لفافہ کیپسول (Capsule)، کیس Case، ظرف زمان و مکان۔ظُرُوف: حالات۔ بظرفِ یا فی ظرفِ: کے اندر، میں، کے دیئے گئے وقت میں۔ظُروُف مُخَفِّفة اور ظروف التخفیف: جرم کی نوعیت کو کم کرنے والے حالات۔

Extenuating circumstances

ظُرُوف مُشَدِّدَة: سنگین بنانے والے حالات۔ بحسب الظروف: حالات کے مطابق، حالات پر منحصر۔بیِّنَة ظَرْفِیَة یا دَلیلٌ ظَرْفی: قرائنی شہادت (Circumstantial evidence) ظَرِیف جمع ظُرَفَاء م ظَرائِف: خوش پوش، خوبصورت، حسین، جمیل خوش وضع شاندار، دلکش، دلفریب، زندہ دل، شگفتہ، بذلہ سنج نفیس، عمدہ۔ظَرافَة: شستگی یا پاکیزگی، حسن و جمال، خوش پوشی، آن، شان، سحر، افسون دلفریبی دلکشی وغیرہ، زندہ دلی، شگفتگی، ظرافت، بذلہ سنجی۔تَظْرِیف: بذلہ سنجی، ذہین، فطین اور بذلہ سنج انداز۔تَظَرُّف: حسن و جمال، آن شان، شستگی، پاکیزگی، خوش پوشی، شان، سحر، دلکشی، بذلہ سنجی، زندہ دلی، شگفتگی۔مَظْرُوف جمع مَظارِیف: لفافہ۔مُتَظَرِّف: خوبصورت، خوش وضع، خوش پوش، بانکا، چھیلا، چھیل چھبیلا۔مُسْتَظْرَف: خوبصورت، خوش وضع، خوش پوش، شاندار۔أَصْنافٌ مستظرفة: رنگ برنگ کی چیزیں، سامان آرائش۔

ظرن: الظِرّان: دیکھئے ظرّ

ظری: ظَرَی -ظَرْیًا الماءُ: پانی کا بہنا۔ظَرِیَ -ظَرًی الغلامُ: لڑکے کا زیرک ہونا۔اظْرَوْرَی اظْرِیْراءً: کا پیٹ پھولنا۔الظَارِی (فا): کاٹ کھانے والا۔ الظَرَوْرَی: زیرک، عقل مند، بذلہ سنج، ظریف۔

ظعن: ظَعَنَ -ظَعْنًا و ظَعَنًا و ظُعُونًا و مَظْعَنًا: کوچ کرنا، روانہ ہونا کہا جاتا ہے: ظعنوا عن دیارهم: وہ اپنے گھروں سے کوچ کر گئے۔أَظْعَنَ ہُ: کو روانہ کرنا۔اِظَّعَنَ الهودجَ: پالکی میں سوار ہونا۔الظِعَان: ہودہ باندھنے کی رسی۔الظَعُون بمعنی الظِعَان۔ والظَعُونة جمع ظُعُن: پالکی اٹھانے والا اونٹ، لدو اونٹ۔الظَعِینة جمع ظَعَائِن و ظُعْن و ظُعُنٌ و جمع اَظْعَان و ظُعُنَات: ہودہ میں بیٹھی ہوئی عورت یا بیوی، ہودہ کہا جاتا ہے: هؤلاء ظَعَائِنُهُ: یہ اسکی عورتیں ہیں۔المِظْعَان من الخیل او النوق: نرم رفتار گھوڑا یا اونٹنی۔

○ ظَعْن: روانگی، سفر، کاروان یا قافلہ کا لمبا سفر۔ظَاعِن: عارضی، چندروزہ، ناپائیدار، آتی جاتی، برق پا، گریز پا، وقتی۔

ظفر: ا۔ ظَفَرَ -ظَفْرًا ہ: کے چہرہ میں ناخن چبھونا، کا ناخن توڑنا۔ظَفِرَ -ظَفَرًا: کی آنکھ میں ناخنہ ہونا۔ایسا شخص: مَظْفُور -- ت عینُهُ: آنکھ کا ناخنہ والی ہونا۔ظَفِرَة: ناخنہ والی آنکھ۔ظَفَّر الشیءَ: میں ناخن چبھونا۔الجلدَ: چمڑے کو ملنا۔الثوبَ: کپڑے پر خوشبو لگانا۔اَظْفَرَ فلانًا: کے چہرے میں ناخن چبھونا۔الظُفُر: ناخنہ (آنکھ کی ایک بیماری) و الظِفْر والظُفُر: ناخنہ (آنکھ کی ایک بیماری)--- و الظِفْر والظُفُر جمع أظفار و جمع الجمع اَظَافِیر (ع ا): ناخن کہا جاتا ہے: مابقی فی الدار ظُفُر: گھر میں کوئی نہیں رہا۔رأیتُهُ بظُفره: میں نے اسی کو دیکھا۔قَلَّم أظفارَه عن اذی الناس: اس نے لوگوں کو ایذا رسانی کم کردی یا روک دی۔کَسَّرَ اظفارَه فی فلان: اس نے فلاں کی غیبت کی۔الأَظْفَار: ناخن کے مشابہ ایک خوشبودار چیز (اس کا واحد نہیں آتا) (فک) نسر کے آگے کے ستارے۔أَظفارُ الثوب: کپڑے کی سلوٹیں۔الظَفَرة: ناخنہ (آنکھوں کی ایک بیماری) لأَظْفَر: لمبے چوڑے ناخنوں والا۔

۲۔ظَفِرَ -ظَفَرًا و اَظْفَر المطلوبَ و به و علیه: مقصد میں کامیاب ہونا، غالب ہونا۔ظَفَّرَهُ: کے لئے کامیابی کی دعا کرنا۔--- وأَظْفَرَهُ بِعَدُوِّهِ: کو دشمن پر کامیاب کرانا۔تَظَافَرَ القومُ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔الظَفِر و الظَفِیر و الظِفِّیر: کامیاب۔ الظَفَرَة: ظافِر کی جمع (کامیاب فاتح لوگ) المُظَفَّر والمِظْفَار: ہر کام میں کامیاب اور فتح مند۔

○ ظَفِرَ -ظَفَرًا: کامیاب ہونا، فاتح ہونا، فتح مند ہونا۔ ب / علی: پر فتح حاصل کرنا، کو فتح کرنا، شکست دینا، پر غالب آنا، کو گھیرے میں لینا، کچل دینا، کا بہتر حصہ حاصل کرنا، کا قبضہ حاصل کرنا، کو حاصل کرنا، جیتنا۔ ظَفَّرہ ب / علی: کو پر فتح مند کرنا۔-- ہ علی / ب: کو پر فاتح بنانا۔أظفر: بمعنی ظفَّر۔ تظافر علی: کے خلاف متحد ہونا، کے خلاف اتحاد کرنا۔ظُفْر و ظُفُر و ظِفر جمع اظفار و اَظافِر و أَظافِیر: ناخن، پنجہ، چنگل۔من (یا منذ) نعومة أظفاره: جوانی سے، لڑکپن سے ہی۔ناعِمُ الظفر: نوجوان۔ظَفَر: کامیابی، فتح مندی، فتح۔ظَفِر: کامیاب، فتح مند، فاتح جمع ظفران: نوجوان۔اُظْفُور جمع اَظافِیر: ناخن، پنجہ، چنگل۔ظَافِر: فاتح، فتح مند کامیاب۔ مُظَفَّر: فاتح، کامیاب۔

ظلّ: ا۔ ظَلَّ -ظَلًّا و ظُلُولًا یفعل کذا: (کچھ) کرتا رہنا، آپ کہتے ہیں: ظَلَلْتُ وظَلْتُ وظِلْتُ: (میں کرتا رہا) ــ ظَلالَةً الیومُ: دن کا سایہ دار ہونا۔ الشیءُ: چیز کا لمبا ہونا۔ظَلَّلَ ہُ: پر سایہ ڈالنا۔أَظَلَّ الیومُ: دن کا سایہ دار ہونا۔ہُ: پر سایہ ڈالنا کو اپنی پناہ میں لینا، اپنی سرپرستی میں لینا، اپنی حفاظت میں لینا۔ الامرُ فلانًا: کے پاس آنا، نزدیک آنا کہا جاتا ہے: اَظَلَّكَ الشهرُ: مہینہ تمہارے نزدیک آیا۔تَظَلَّلَ بالشجرة: درخت کے سایہ میں بیٹھنا۔استَظَلَّ بالظلّ: سایہ کی طرف جھکنا اور اس میں بیٹھنا۔ الكَرْمُ: انگور کی خوشہ دار شاخوں کا الجھنا۔من الشیء:

کا سایہ لینا۔ ـــت الشمسُ: سورج کا بادلوں میں چھپ جانا۔ الظِلّ: عزت، قوت، فراست، نا قابل رسائی ہونا (کہا جاتا ہے: هو في ظِلِه: وہ اسکی حفاظت میں ہے اسکی پناہ میں ہے) آرام، آسودگی۔ جمع ظِلال و اَظلال و ظُلُول. سایہ۔ من القيظ: گرمی کی شدت۔ من الليل: رات کی سیاہی یا رات کا حصہ کہا جاتا ہے: مشيتُ على ظِلّي او انتعلتُ ظِلّيَ: میں اس وقت چلا جب دن آدھا گزر چکا تھا اس لئے سایہ نہیں ملا۔ بقي عندي ظِلّ النهار: وہ میرے پاس سارا دن رہا۔ یہ اس لئے کسی چیز کا سایہ اسکی موجودگی تک رہتا ہے اور غیر موجودگی میں نہیں رہتا۔ كان ذلك اليوم يومًا اطول من ظل القناة: یعنی وہ دن بہت زیادہ طویل تھا۔ مُلاعبُ ظِلّه او خاطِفُ ظِلّه (ح) ایک پرندے کا نام، کہتے ہیں یہ پرندہ شتر مرغ ہے۔ جب پانی میں اپنے سائے کو دیکھتا ہے تو اس کو چھیننے کے لئے اسکی طرف بڑھتا ہے۔ الظَلَل: پانی جو درختوں کے سایہ کے نیچے ہو اس تک دھوپ نہ پہنچے۔ الظُلّة جمع ظُلَل و ظِلال: تنگ سائبان، ہر وہ شئے جس کے ذریعے گرمی یا سردی سے پناہ لیں، ہر سایہ دار چیز جیسے درخت۔ الظَلّة: اسم مرة۔ اقامت الظِلّة و الظَلال و الظَلالة: ہر سایہ دار چیز جیسے بادل وغیرہ۔ الظِلال: سایہ۔ ظِلالُ البحر: سمندر کی موجیں۔ الظَليل: سایہ دار، ہمیشہ سایہ دینے والا۔ ظِلٌ ظَلِيل: گھنا سایہ دار یا ہمیشہ سایہ دار۔ الظليلة الظليل کا مونث: بہت درختوں والا باغ، وادی کے نشیب میں پانی کا تالاب، جہاں پانی بند رہتا ہے۔ المَظَلّة و المِظَلّه جمع مَظَال: جس سے سایہ لیا جائے، بڑا خیمہ، چھتری (دھوپ کی) جمع مظلّات: پیراشوٹ، ہوائی چھاتہ۔ عيد المَظَالّ: یہودیوں کی عید جس میں وہ پتوں کے خیمے نصب کر کے چند یوم مصر کی غلامی سے نکلنے کی یاد مناتے ہیں۔ المُظَلِّيّون: واحد اس کا مظلی ہے، ہوائی چھاتے سے اترنے والا چھاتا باز۔ يومٌ مُظِلّ: سایہ دار دن۔

۲۔ ظَلَّلَ بالسوط: ڈرانے کے لئے کوڑے کو ہلانا۔

۳۔ استَظَلَّت العيونُ: چشمے کے پانی کا نیچے بیٹھ جانا۔

۴۔ الظِلّ من الثوب: کپڑے کا روا۔ ظِلّ الشباب او الشتاء: جوانی یا جاڑے کا آغاز کہا جاتا ہے: فلانٌ يباري ظِلّ راسه: فلاں تکبر کرتا ہے۔

○ ظلّ يسكن البيتَ: وہ گھر میں رہتا رہا۔ ظلّ صامِتاً: وہ خاموش رہا۔ ظلّ على موقف: وہ ایک موقف (نقطہ نگاہ یا رویہ) پر ڈٹا رہا، جما رہا، قائم رہا۔ في ظِلِّ: کی حمایت یا سرپرستی میں، کے زیر اہتمام کے زیر حاکمیت۔ تحت ظلّ: کی حمایت یا سرپرستی میں، کے زیر اہتمام۔ ثقيل الظِلّ: سخت، ناپسندیدہ، بے حد غرور، نا قابل حد تک غرور، نا قابل برداشت، ناگوار۔ خفيفُ الظِلّ: پسندیدہ، نفیس۔ استثقل ظِلّهُ: کو ناپسند کرنا، کو نا قابل برداشت، بے حد مغرور یا مغز چاٹ پانا۔ تَقَلَّصَ (یا قلص) ظِلّهُ: اسکی ساکھ، وقار یا اختیار جاتا رہا۔ ظُلّة جمع ظُلَل: سائبان، شامیانہ، چتر، پناہ کا جھونپڑا یا خیمہ، پناہ، جھونپڑی، کھوکھا، سٹال، ساحل پر بنی ہوئی کرسی۔ ظليل: سایہ دار، چھاؤں میں بنی ہوئی یا رکھی ہوئی کوئی چیز۔ مِظَلّة و مَظَلّه جمع مِظلّات و مَظال: چھتری، زنانہ چھاتہ، دکان کا سائبان۔ لیمپ شیڈ، سائبان، شامیانہ، برآمدہ، بیرونی ڈیوڑھی، پیش دہلیز۔ مِظَلّة واقية پیراشوٹ، ہوائی چھاتہ۔ مظلة هابطة: پیراشوٹ، ہوائی چھاتہ۔ جندي المظلّة جمع جنود المظلات (او المظلة): چھاتا فوجی۔ مِظَلِيّ جمع مِظَلِيّون: چھاتہ فوجی جمع مِظَلِّيُون: چھاتا فوج، ہوائی جہاز میں جانے وال فوج۔ مُظَلَّل: سایہ دار۔ مُظِلّ: سایہ دار۔

ظلع: ا۔ ظَلَعَ ـَ ظَلْعًا البعيرُ: اونٹ کا چلنے میں لنگڑانا صفت ظَالِع: الظَلْع (مص): عیب کہا جاتا ہے۔ اربَعْ على ضَلْعِك: جو بات تم نہیں کر سکتے اس سے باز رہو۔ لا يَربَعُ على ظَلْعِك من ليس يحزنُهُ أمرُك: جس کو تمہاری حالت پر رنج ہوتا ہے صرف وہی تمہارا خیال رکھتا ہے۔ ارْقَ على ضَلْعِك: (ارقا بھی کہا جاتا ہے) پہلے اپنی اصلاح کر دیا اپنی حد سے تجاوز نہ کرو، اپنی خامی پر نظر رکھو۔ الضَلْع: لنگڑا پن۔ الظَالِع (فا): (مذکر و مونث دونوں کے لئے) جمع ظُلَّع: مائل، جھکا ہوا۔ الظُلاع: (طب) جانوروں کے پاؤں کی بیماری۔

۲۔ ظَلَعَ ـَ ظَلَعَت بهم الارضُ: زمین ان پر تنگ ہوگئی۔

۳۔ الظَالِع: (مذکر و مونث کے لئے) جمع ظُلَّع: متہم، مشکوک۔ مونث کو ظالعہ بھی کہا جاتا ہے۔ مُتَّهم: (جس پر تہمت لگی ہو) مونث کو ظالِعة: بھی کہا جاتا۔

○ ظلَع ـ ظَلْعًا: لنگڑانا، لنگڑا کر چلنا۔

ظَالِع: لنگڑا، لولا۔

ظلف: ا۔ ظَلَفَ ـِ ظَلْفًا: کھر پر مارنا۔ ـــ ظَلْفًا القومَ: قوم کے نشانات قدم پر چلنا۔ ـــ أثرَهُ: اپنے پاؤں کے نشانات کو چھپا دینا تا کہ اس کا پیچھا نہ کیا جا سکے۔ ظُلِفَ الرجلُ: سخت زمین میں روکا جانا تا کہ نشانات قدم کا پتہ نہ لگ سکے۔ ظَلِفَ ـَ ظَلَفَات الارضُ: زمین کا سخت ہونا۔ ـــت معيشةُ فلان: کی زندگی کا تکلیف دہ ہونا۔ ظَالَفَ مُظَالَفَةً أثرَهُ: کے نشانات قدم کو چھپا دینا تا کہ پیچھا نہ کیا جا سکے۔ تَظَلَّفَ و اظّلَفَ: سخت زمین میں جا پڑنا۔ الظِلْف جمع ظُلُوف و أظلاف: پھٹا ہوا، کہا جاتا ہے۔ جاؤوا على ظِلْفِه: وہ اس کے قدم کے نشانوں پر آئے)، اس کا پیچھا کرتے ہوئے آئے۔ ضرورت۔ حاجت، گزران کی تنگی۔ الظَلَف: سخت و پتھریلی زمین۔ ارضٌ ظَلْفَة و ظَلِفَة و ظَلَفَة: پتھریلی زمین۔ الظَلِيف جمع ظُلْف و ظُلُف: بدحال، ذلیل، سخت مشکل کام۔ الأظْلُوفة جمع أظَالِيف: سخت مٹی، نوکیلے پتھروں والی زمین۔

۲۔ ظَلَفَ ـِ ظَلْفًا نفسَهُ عن الشيء: اپنے آپ کو کسی چیز یا بات سے باز رکھنا، روکنا۔ ظَلِفَ ـَ ظَلَفًا ت نفسُهُ عن كذا: سے رکنا، باز رہنا۔ ظَلَّفَ هُ عن كذا: کو سے دور کرنا۔ أظْلَفَ هُ: کو دور کرنا، ہٹانا۔ رجلٌ ظَلِفُ النفسِ: بری باتوں سے پرہیز کرنے والا۔ رجلٌ ظَلِيفُ النفس: پاکیزہ نفس، برائیوں سے پرہیز کرنے والا۔

۳۔ ظَلَّفَ على كذا: پر زیادہ کرنا، میں اضافہ کرنا۔

۴۔ الظَلْف: مباح، جائز و باطل کہا جاتا ہے: ذهب دمُهُ ظَلْفًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔ الظَلَف: پانی اور کیچڑ سے اونچی جگہ، کہا جاتا ہے۔ ذهب دمُهُ ظَلَفًا: اس کا خون ناحق اور رائیگاں گیا۔ اخذه بظَلِفِهِ: اس نے سب کچھ لے لیا اور کچھ نہ چھوڑا۔ الظَلِف: پانی اور کیچڑ سے بلند جگہ۔ الظَلِفَة: کہا جاتا ہے۔ اخذه بظَلِفتِهِ: اس نے سب لے لیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ الظَلِيف: کہا جاتا ہے۔ ذهب دمُهُ ظليفًا: اس کا خون ناحق اور رائیگاں گیا، کہا جاتا ہے: اخذه بظَلِيفِه و بظَلِيفتِه: اس نے سب لے لیا اور کچھ نہیں رہنے دیا۔ الظَلْفَاء: ہموار لمبی چٹان۔

○ ظِلْف جمع ظُلُوف و أظلاف: پھٹا ہوا کھر۔

ظلم: ا۔ ظَلَمَ ـِ ظُلْمًا و ظَلْمًا و مَظْلِمَةً هُ: پر ظلم کرنا، اسی سے ہے۔ ظَلَمَ الراعي لِرَعِيَّتِه: سرپرست کا اپنے محکوموں پر ظلم۔ ـــ هُ حقَّهُ: کے حق کو کم کرنا۔ ظَلَّمَ هُ: کو ظالم کہنا۔ ـــ هُ الحاكمُ: حاکم کا کسی کو اس پر ظلم کرنے والے سے حق دلانا اور اسکی مدد کرنا کہا جاتا ہے۔ تَظَلَّم فلان إلى الحاكم من فلان فظَلَّمَهُ: حاکم سے کسی کے ظلم کی شکایت کرنا اور حاکم کا اس سے انصاف کرنا۔ أظْلَمَ الرجُلُ: مظلوم ہونا۔ تَظَلَّم

منہ: کے ظلم کی شکایت کرنا۔ ہُ حَقَّہُ: کے حق کو گھٹانا۔ الرجُلَ: ظلم پر صبر کرنا، کہا جاتا ہے۔ ظلمتہُ فتظلّمَ میں نے اس پر ظلم کیا تو اس نے اس پر صبر کیا۔ تَظالَم القوم: ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ اِظّلَمَ و اِنظَلَمَ: ظلم برداشت کرنا۔ الظُلم: حق کی کمی، ظلم۔ الظُلامة و المَظلِمة جمع مَظالِم: بے انصافی، ظلم، ظلم سے لی ہوئی چیز۔ الظالِم جمع ظالمون و ظَلَمة و ظُلّام (فا): ظالم۔ الظِلام: ظلم، کہا جاتا ہے۔ نظر الیَّ ظِلامًا: اس نے میری طرف ترچھی نظر سے دیکھا۔ الظَلّام و الظلِّیم و الظَلوم: بہت ظلم کرنے والا۔ الظَلیم جمع ظِلمان و الظُلمان و أظلِمَة: مظلوم۔ الظَلیمة: ظلم سے لی ہوئی چیز۔

٢۔ ظَلَمَ - ظُلمًا و ظَلمًا و مَظلِمةً: چیز کو بے موقع رکھنا۔ مثل ہے: من استرعی الذئب فقد ظلم. جس نے بھیڑیے کو بکریوں کا چوکیدار بنایا تو اس نے بکریوں پر ظلم کیا، یہ مثل اس وقت بیان کی جاتی ہے جب کوئی خائن کو امین بنائے یا امانت کو اسکی جگہ پر نہ رکھے۔ ۔ الارضَ: زمین کو بے موقع کھودنا۔ الطریقَ: راستہ سے ہٹ جانا۔ کہا جاتا ہے: ما ظلمکَ اَنْ تفعل کذا: تجھے ایسا کرنے سے کس نے روکا۔ ظَلَمَ البعیرَ: اونٹ کو بغیر کسی بیماری کے ذبح کرنا۔ کل ما اعجلتہ عن اوانہ فقد ظلمتہ: جس کام کو آپ اس کے صحیح وقت سے پہلے کریں تو یہ اس پر ظلم ہے۔ الظُلم (مص): چیز کو اس جگہ نہ رکھنا جہاں اسے رکھنا چاہئے۔ بے محل بات۔ المَظلُومَة (مفع): وہ زمین جسے کھودنے کی جگہ نہ کھودا گیا ہو۔

٣۔ ظَلِمَ - ظَلَمًا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ أظلَمَ اللیل: رات کا تاریک ہونا۔ ۔ اللّٰہُ اللیلَ: اللہ کا رات کو تاریک بنانا۔ الرجُلُ: اندھیرے میں داخل ہونا۔ ما أظلَمَہ وما أضوأہُ: وہ کس قدر تاریک ہے وہ کس قدر روشن ہے (دونوں خلاف قیاس ہیں) لیل ظَلِمٌ: نہایت تاریک رات۔ الظَلم جمع ظُلوم: وجود، بدن۔ الظُلمَة و الظُلُمَة جمع ظُلَم و ظُلُمات و ظُلَمات و ظُلمات: تاریکی، اندھیرا۔ الظُلَم: قمری ماہ کی آخری تین راتیں۔ الظلام: تاریکی، اندھیرا، رات کا پہلا حصہ۔ الظَلماء: تاریکی لیلة ظَلماء: سخت تاریک رات۔ کبھی لیلٌ ظَلماء بھی کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ خلاف قیاس ہے۔ الظَلامِیّ: ظلامیة: مذہب رکھنے والا۔ الظَلامِیَّة: ان لوگوں کا مذہب جو عام لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ امرٌ مِظلام: بہت کٹھن کام۔

٤۔ أظلَم الرجُلُ: دانتوں کی چمک حاصل کرنا، چمکدار دانتوں والا ہونا۔ الظَلم جمع ظُلوم: برف، دانتوں کی چمک۔

٥۔ الظَلم جمع ظلوم: پہاڑ۔ الظَلیم جمع ظِلمان و ظُلمان و أظلِمة (ح): شتر مرغ۔

ظَلَمَ - ظَلمًا و ظُلمًا: ظلم کرنا، برا کام کرنا۔ ۔ ہُ: پر ظلم کرنا، سے برا سلوک کرنا، کو نقصان پہنچانا، پر ظلم کے پہاڑ توڑنا۔ ظَلِمَ - و أظلَمَ: تاریک ہونا یا ہو جانا، تیرہ و تار ہونا، گھٹا ٹوپ ہونا۔ تظلَّم من: کی شکایت کرنا، کے بارے میں شکایت کرنا۔ انظَلَمَ و اظّلَمَ: مظلوم ہونا، بے انصافی کا شکار ہونا۔ ظُلمًا: ظلم سے، بے انصافی سے، ناروا طور پر، غلطی سے۔ بحر الظلمات: بحر اوقیانوس۔ ظلّام: بدکار، بدمعاش، غلط کار، موذی، مجرم، بد ذات، ظالم۔ ظُلامة جمع ظلامات: بدی، ظلم، بے انصافی، سخت ظلم۔ اظلَم: زیادہ تاریک، زیادہ برا، خراب یا شرمناک، زیادہ بدنام، زیادہ وحشی یا بدمعاش۔ مَظلِمة جمع مظالِم: برائی، ظلم، بے انصافی، بے انصافی کا کام، سخت ظلم۔ اِظلام: تاریکی، اندھیرا۔ ظالِم جمع ظالمون و ظُلّام و ظَلَمة: بے انصاف، جانبدار، غیر منصف، ناجائز، ظالم، گنہگار، مجرم، قانون شکن۔ مظلوم: مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا، جس سے برا سلوک کیا گیا، جس سے ناانصافی کی گئی۔ مُظلِم: تاریک، گھٹا ٹوپ، اندھیرا، اندھیری، سیاہی مائل، کالا سیاہ، دھندلا سا۔

ظمی: ظَمِیَ - ظَمًا و ظَمْأً و ظَماءً و ظَماءَةً: سخت پیاسا ہونا۔ الیہ: کا مشتاق ہونا۔ صفت مذکر ظَمِیٌّ و ظامِیٌ و ظَمآن صفت مونث ظَمِیَة و ظامِیَة و ظَمْیٰ و ظَمآنة جمع ظِماء (مذکر و مونث دونوں کے لئے) ظَمَّأہُ: کو پیاسا کرنا۔ الفرسَ: گھوڑے کو لاغر کرنا۔ اظمأہُ: کو پیاسا کرنا۔ تظمّأ: پیاس پر صبر کرنا۔ الظِمْء جمع أظماء و الظَمَا و الظَماء: پیاس۔ المظماء: سخت پیاس۔ المَظمأ: پیاس کی جگہ (زمین کی)

ظَمِیَ - ظَمًا و ظَماءً و ظَماءَةً: پیاس لگنا، پیاسا ہونا۔ ظَمّأہُ: کو پیاس لگانا۔ ظِمْء ظَمًا و ظَماء: پیاس۔ ظَمآن (مذکر) پیاسا۔ ظَمْأی (مونث) پیاسی ظامِی: پیاسا۔

ظمی: ظَمِیَ - ظَمًی: گندم گوں ہونا۔ الأظمی: گندم گوں۔ الظَمیاء جمع ظُمیٌ الأظمی کا مونث (گندم گوں (عورت) شفة ظمیاء: پژمردہ گندمی ہونٹ۔ عینٌ ظمیاء: باریک پلکوں والی آنکھ۔ لثة ظمیاء: کم خون والا مسوڑھ۔ ساقٌ ظمیاء: کم گوشت والی پنڈلی۔

ظنّ: ١۔ ظَنَّ - ظَنًّا الشیءَ: کو جاننا کا یقین کرنا۔ ظنوا ان لا ملجأ من اللّٰہ الا الیہ: انہوں نے یقین سے جان لیا کہ اللہ کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں مگر اس کے پاس (اور گمان کے معنی بھی دیتا ہے) جیسے ظننتُ زیدًا صاحبكَ: میں نے زید کو تمہارا ساتھی سمجھا (گمان کیا) مبتداء اور خبر پر آتا ہے اور دونوں کو بطور مفعول منصوب کرتا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا۔ و اظَنَّ و اِظّطَنَّ ہُ بکذا: کو سے متہم کرنا۔ أظَنَّ ہُ بكذا: کو سے متہم کرنا۔ ۔ ہُ الشیءَ: کو کے وہم میں مبتلا کرنا، کے دل میں کا وہم ڈالنا۔ فیہ الناسَ: کو لوگوں کی الزام تراشی کا نشانہ بنانا۔ تظنّنَ و تظنّی: گمان کرنا۔ الظَنّ (مص) جمع ظُنون و جمع اظانین: (خلاف قیاس) گمان، یقین، شک، فقہا کے نزدیک، غالب ظن جو یقین سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ الظِنّة جمع ظِنَن و ظنائن: تہمت۔ فیہ ظِنّة: اس میں تہمت ہے۔ الظِنانة: تہمت۔ الظَنّان: بدظن، بدگمان، غیر معتبر۔ الظَنون: بدگمان، بدظن۔ رجل ظَنون: کم حیلہ، کمزور، غیر معتبر آدمی۔ وہ شخص جس کی خبر پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ بئرٌ ظَنونٌ: وہ کنواں جس میں پانی ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ ہو۔ دَینٌ ظَنونٌ: وہ قرض جس کے وصول ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ ہو۔ الظَنین جمع اظِنّاء: متہم مشکوک، بدظنی کی وجہ سے ناپسندیدہ۔ الأظَنّ: خیال رکھے جانے کے زیادہ لائق۔ نفسٌ ظَنّاء: متہم نفس۔ مَظِنّة الشی جمع مَظانّ: وہ جگہ جہاں کسی چیز کے وجود کا گمان اور خیال ہو۔ فلانٌ مظنة الخیر: فلاں شخص میں بھلائی کا وجود اس کی مانوس چیز ہے۔ فی المسألة مظنة اعتراض: اس مسئلہ میں اعتراض کی گنجائش ہے۔

٢۔ الظِنّة جمع ظِنَن و ظنائن: تھوڑی چیز۔ الظَنین جمع اظِنّاء: بے خیر شخص۔

ظَنَّ - ظَنًّا ہ: کا خیال کرنا، یقین کرنا کہ فرض کرنا کہ، گمان کرنا کہ، ۔ ہ ہ: کو کوئی شخص یا چیز خیال کرنا، سمجھنا۔ ہ ب: کسی چیز کو کچھ سمجھنا، ۔ ہ / ب: پر شک کرنا۔ ظَنّہ یفعل: کو خیال کرنا کہ وہ کچھ کرنے کا اہل ہے، کے متعلق یقین کرنا کہ وہ کچھ کرے گا۔ لا اظنّ احدًا یُنکِرُ: میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ لا اظنّكَ تُخالِفُنی: مجھے یقین نہیں کہ تم میری مخالفت یا

تردید کر سکتے ہو۔ ظنَّ فیه القدرةَ علی: اس نے اسے اس کا اہل سمجھا۔ ظن به الظنون: کے متعلق بری رائے رکھنا۔ ظن به الغباء کے متعلق شک کرنا کہ وہ بے وقوف ہے۔ اظنَّ ہ: پر شبہ کرنا۔ تظنّن: اندازہ لگانا، قیاس آرائی کرنا۔ ظنّ: رائے، خیل، فرض کرنا، یقین، شک، تذبذب۔ حُسنُ الظن: اچھی رائے۔ سُوءُ الظن: بدگمانی، عدم اعتماد، بے اعتمادی، شک، شبہ۔ فی اغلب الظن. فی اکثر الظن: غالباً۔ اکثر الظن أنَّ: غلب گمان ہے کہ، یہ عین ممکن ہے کہ ظناً منه أنَّ: چونکہ اس کا یقین تھا کہ حَسُنَ ظنّهٗ به: کے متعلق اچھی رائے رکھنا۔ أحسن الظنَّ ب: کے متعلق اچھی رائے رکھنا۔ ساءَ به ظنّا: کے متعلق بری رائے رکھنا۔ أساءَ الظنَّ ب: کے متعلق بری رائے رکھنا۔ ظنّیّ: مفروض، فرض کیا ہوا، احتمال، فرضی، مفروضہ۔ مظنّة جمع مظانّ: کسی چیز کی توقع کرنے کی جگہ یا وقت۔ وہ جگہ جہاں کسی چیز یا شخص کے ملنے کا غالب امکان ہو۔ اس کا اغلب محل وقوع، شک، شبہ، بے اعتمادی۔ التمستُه فی مظانّه: میں نے اسے وہاں تلاش کیا جہاں مجھے اس کو پانے کی توقع تھی یا جہاں غالباً تھا۔ فی غیر مظانّه: وہ مقامات جہاں وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مَظنُون: فرضی، مفروضہ، فرض کردہ، مشتبہ۔ ظَنُون: مشتبہ، شکی، بدگمان۔ ظنین: مشتبہ، مشکوک، ناقابل اعتبار (علی کے بارے میں) مشتبہ شخص۔ ظِنّة جمع ظِنَن: شک، شبہ، بے اعتمادی۔

ظنب: الظُّنبُوب جمع ظَنابیب: پنڈلی کا اگلا حصہ کہا جاتا ہے۔ قرَعَ ظنابیبَ الامر: اس نے کام آسان کر دیا۔ قرَعَ لهذا الامر ظُنبُوبَهٗ و ساقَهٗ: اس نے اس کام میں خوب کوشش کی۔

ظهر: ١۔ ظَهَرَ - ظُهُوراً: ظاہر ہونا، باہر آنا، نمودار ہونا۔ ظَهْراً و ظُهُوراً علی السرّ: راز جان لینا، راز سے مطلع ہونا، آگاہ ہونا۔ ظَهَرَ الثوبَ: کپڑے کا ابرہ بنانا۔ بعلمِهٖ: اپنے علم پر فخر کرنا، ناز کرنا۔ ظاهَرَ بینَ الثوبین: دو کپڑے اوپر نیچے پہننا۔ أظهَرَ به: کا مرتبہ بڑھانا۔ الشیءَ: کو ظاہر کرنا۔ ۔ ہُ علی السرّ: کو راز سے آگاہ کرنا، کو راز بتانا، کو راز سے مطلع کرنا۔ تظاهَرَ: ظاہر ہونا۔ بالشیءِ: کو ظاہر کرنا۔ الظِّهارة من الثوب: ابرہ یعنی دوہرے کپڑے کی اوپر کی تہہ۔ الظُّهُور (مص): عید الظهور عند المسیحیین: عید تجلی، حضرت عیسیٰ کی معجزانہ تبدیل ہیئت کا دن۔ الظاهِر (فا): بیرونی، واضح۔ عند النحویین: اسم جو ضمیر نہ ہو۔ اسے المُظهَر بھی کہا جاتا ہے۔ ظاهر البلد: بیرون شہر۔ الظاهرة ج ظاهرات و ظواهر: ظاہر کا مؤنث۔ ۔ من العیون: ابھری ہوئی آنکھ۔ ظاهِرةُ الجبل: پہاڑ کی چوٹی۔ الظَّواهِر: بلند وادیاں بلند زمینیں۔ الظاهِریّة: مذہب جو کہتا ہے کہ معرفت مظاہر یا محسوس حوادث میں محدود ہے۔ المَظهَر: ظہور کی جگہ۔ المُظهَر (مفع) عند النحاة: اسم جو ضمیر نہ ہو۔ اسے الظاہر بھی کہا جاتا ہے۔

٢۔ ظَهَرَ - ظَهْراً و ظُهُوراً البیتَ: گھر پر چڑھنا۔ ۔ علیه: پر برتر ہونا، پر غالب ہونا۔ ۔ بفلان: پر غالب ہونا۔ أظهَرَہ علی عدوه: کو دشمن پر غالب کرنا۔ اسْتَظهَرَ علیه: پر چڑھنا۔ غالب آنا۔

٣۔ ظَهَرَ - ظَهارةً: مضبوط پیٹھ والا ہونا۔ ۔ ظَهْراہ: کی پیٹھ پر مارنا۔ الشیءَ و به: کو پیٹھ پیچھے ڈالنا۔ ظَهْراً و ظُهُوراً بحاجتی: حاجت کو ہلکا جان کر اس کو پیٹھ پیچھے ڈالنا۔ ظَهِرَ ۔ ظَهَراً: پیٹھ میں شکایت ہونا، صفت: ظَهِر۔ ظَهَّرَ و اظَّهَرَ حاجتی: حاجت کو پیٹھ پیچھے ڈالنا اور بھلا دینا۔ أظهَرَ الشیءَ: کو پیٹھ پیچھے ڈالنا۔ تظاهَرَ القومُ: ایک دوسرے سے دور ہونا، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ موڑنا۔ اسْتَظْهَرَ: احتیاط کرنا۔ ۔ الشیءَ: بچانے کے لئے کسی چیز کو پیٹھ پیچھے کرنا۔ ۔ لہٗ: کے لئے تیار ہونا۔ الظَّهْر (مص) جمع أظْهُر و ظُهُور و ظُهْران: پیٹھ کہا جاتا ہے۔ لا تجعل حاجتی بظَهْرٍ: میری حاجت کو نہ بھولنا اور اپنی پیٹھ پیچھے نہ رکھنا۔ قلَبَ الامرَ ظَهْراً لبطنٍ: اس نے بات کو خوب الٹا پلٹا، معاملہ اچھی طرح طے کیا۔ قلب له ظَهْرَ المِجَنّ: وہ اس کے لئے بدل گیا اور دشمنی کی۔ ظَهْرُ الانسان: پیٹھ۔ قِدرٌ ظَهْرٌ: پرانی ہانڈی۔ الظَّهْر: لمدّ اونٹ، تخت زمین کہا جاتا ہے۔ اعطاہ عن ظَهْرِ یدٍ: اس نے اسے از خود بغیر بدلے کے دیا۔ قتله ظَهْراً: اس نے اسکو اچانک مار دیا۔ هو یا کلُ علی ظَهْرِ یدی: وہ میرے ہاتھ سے کھاتا ہے یعنی میں اس پر خرچ کرتا ہوں۔ هو نازل بین ظهریهم و ظهرانیهم و بین أظْهُرِهم: وہ ان کے درمیان اترا۔ رأیتُه بین ظَهْرانَی اللیل: میں نے اسکو عشا اور فجر کے درمیان دیکھا۔ الظِّهْرة: کہا جاتا ہے: جعل حاجتی ظِهْرتَهٗ: اس نے میری حاجت کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا اور بھول گیا۔ الظِّهْرِیّ جمع ظَهارِیّ: فراموش شدہ۔ ضرورت کے لئے تیار رکھا ہوا اونٹ۔ ظُهارة الدابّة: جانور کی پیٹھ پر اسکی حفاظت کے لئے رکھی جانے والی چیز۔ الظَّهِیر: مضبوط پیٹھ والا، جسے پیٹھ میں شکایت ہو۔ الظَّهِیر جمع ظَهائر۔ الظَّهِیرة کا مؤنث۔ المُظْهِر (فا): سواری والا۔ المُظَهَّر: مضبوط پیٹھ والا۔

٤۔ ظَهَرَ - ظَهْراً و ظُهُوراً علیه: کی مدد کرنا۔ ظاهَرَ مُظاهَرةً و ظِهاراً ہٗ: کی معاونت کرنا۔ تظاهَرَ القومُ: ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس سے ہے تظاهَر الناسُ تظاهُرۃ جمع تظاهرات: لوگوں کا اکٹھے ہو کر سڑکوں پر آنا اور اپنے کسی کام کا مطالبہ کرنا۔ استظهَرَ به: سے مدد مانگنا۔ الظِّهْرَۃُ: مدد۔ و الظُّهْرَۃ: مددگار و معین کہا جاتا ہے۔ جاء نا بظِهْرتِه و بظُهْرتِه و بظَهَرتِه: وہ اپنی قوم اور قبیلہ کے ساتھ ہمارے پاس آیا۔ ظاهِرةُ الرجلِ: آدمی کا کنبہ۔ الظَّهِیر: مددگار۔

٥۔ ظَهَّرَ و أظْهَرَ: دوپہر میں چلنا یا داخل ہونا۔ الظُّهْر جمع أظْهار: دوپہر، نصف النہار کی گھڑی۔ الظَّهِیرة: دوپہر، نصف النہار کی حد۔

٦۔ أظْهَرَ الکتابَ: کتاب کو ازبر پڑھنا۔ استظْهَرَ الدرسَ: سبق کو حفظ کرنا اور ازبر پڑھنا۔ الظَّهْر: جو آپ سے اوجھل ہو کہا جاتا ہے۔ قرأہ علی ظهر قلبه او من ظهر القلب او علی ظهر لسانه: کو حفظ کر کے کتاب کے بغیر پڑھنا، کہا جاتا ہے۔ قرأہٗ ظاهِراً: حفظ کر کے کتاب کے بغیر پڑھنا۔

٧۔ الظَّهْر: بہت سامان، خشکی کا راستہ کہا جاتا ہے: ساروا فی طریق الظَّهْر: وہ خشکی کے راستے چلے۔ ۔ جمع الظُّهْران: تیر کے پر کا چھوٹا۔ پہلو۔ الظَّهَرَۃ: گھر میں موجود سامان اور کپڑے۔ الظُّهار: تیر کے پر کا چھوٹا پہلو۔

ظَهَرَ - ظُهُوراً: دکھائی دینا، محسوس ہونا، صاف واضح اور بین ہونا، آشکار ہونا (ل: کو) معلوم ہونا، پتہ چلنا، نمودار ہونا، نظر آنا، دکھائی دینا، ظاہر ہونا۔ -- ل: کو دکھائی دینا۔ ـــ: بیماری کا پھوٹ پڑنا، باہر آنا، ظاہر ہونا (کتاب رسالہ وغیرہ) کا چھپنا، شائع ہونا۔ -- من: سے پیدا ہونا۔ ہ: پر چڑھنا۔ -- علی: پر بالادستی حاصل کرنا، فتح یاب ہونا، کا بہتر حصہ لینا، پر غالب آنا، غلبہ حاصل کرنا، کو فتح کرنا، کو نیچا دکھانا، کو اپنے تسلط میں لینا، سے واقف ہونا، کا علم ہونا، سے مطلع ہونا، سے شناسا ہونا، کو جاننا، کے متعلق اطلاع پانا، جاننا، آگاہ ہونا، کو سیکھنا۔ ظَهَّرَ (ہ): ہنڈی کی پشت پر دستخط کرنا۔ ظاهَرَہ: کی مدد کرنا، تائید کرنا۔ أظهَرَ ہ: کو ظاہر کرنا، دکھانا، پیش کرنا، کا اعلان کرنا، کو تفصیل سے سمجھانا۔ ہ: فلم ڈویلپ کرنا۔ ہ علی: کو پر فتح یاب کرنا، کو سے واقف کرنا، کو میں شامل کرنا، کو کے بارے

میں معلومات دینا، کو کی اطلاع دینا، کو کے متعلق آگاہ کرنا، سے کی وضاحت کرنا، کو کچھ دکھانا، پر کچھ ظاہر کرنا۔ تَظَاھَرَ ب: کو واضح کرنا، دکھانا، کی نمائش کرنا، کی نمود و نمائش کرنا، کا تصنع کرنا، کا بہانہ کرنا، (کچھ) سننا، کی نقل کرنا۔ ــ: مظاہرہ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ــ علی: کے خلاف متحد ہونا۔ استَظْھَرَ ہ: کو دکھانا، بے نقاب کرنا۔ ہ: کو زبانی یاد کرنا۔ ب: سے مدد چاہنا، سے مدد کی اپیل کرنا۔ علی: پر غالب آنا، کو فتح کرنا، زیر کرنا، پر بالادستی حاصل کرنا، کا بہتر حصہ لینا۔ ظَھر ذ: گی لوہا۔ ظَھرٌ الحدید و زھر الحدید و حدید الظھر: ذ گی لوہا۔ ظَھرٌ جمع ظُھُور و اَظْھُر: پشت، پیٹھ، عقب، عقبی حصہ، پچھلا حصہ، پچھلی طرف، پچھلا پہلو، الٹ، ڈسٹ کور کا مڑا ہوا حصہ، کتاب کے شروع یا آخر کا ورق (Fly leaf) عرشہ جہاز (Deck) اوپر کا حصہ، چوٹی، سطح۔ ظُھُورات: عارضی۔ سلسلة الظھور: ریڑھ، فقرات۔ ظَھراً لبطن: الٹا، اوندھا، الٹ پلٹ، درہم برہم۔ ظَھراً علی عقب: یکسر، بالکل، مکمل طور پر۔ بظھر الغیب: کسی کی پیٹھ پیچھے، چھپ کر، عیاری سے، دغا بازی سے، خفیہ طور پر، چوری چھپے۔ بین اَظْھُرِھم: کے درمیان، ان میں۔ من بین اظھرنا: ہمارے درمیان سے، ہم میں سے۔ علی ظھر الباخِرة: دخانی جہاز پر۔ عن ظھر القلب، عن ظھر قلب، یا عن ظھر الغیب: زبانی، از بر۔ مستخدم ظھورات: عارضی ملازم۔ ظُھر جمع اَظْھار: دوپہر، دن کا وسط، دوپہر کی نماز (مونث) بعدَ الظُھر: سہ پہر تیسرے پہر۔ قبل الظھر: دوپہر سے پہلے۔ نبذہ (طرحہ) ظِھرِیا: پر کوئی توجہ نہ دینا، کی پرواہ نہ کرنا، کو نظر انداز کرنا۔ ظَھِیر: مددگار، تائید کنندہ، پشت پناہی کرنے والا، بیک (کھیلوں میں) حُبُّ الظُھور: دکھاوے کا شوق۔ الظَھْران: ذہران، سعودی عرب میں تیل کے وسیع علاقہ کا ایک شہر۔ بین ظَھرانیھم: ان کے درمیان، ان میں۔ ظَھِیرة: دوپہر، دن کا وسط، دن کے وسط کی گرمی۔ اَظْھَرُ: زیادہ واضح، زیادہ صاف، زیادہ ظاہر، زیادہ آشکار۔ مظْھُر جمع مَظَاھِر: (بیرونی) ظہور، بھیس، رویہ، چال چلن، منظر، چہرہ، شکل، صورت، رخ پہلو۔ جمع مَظَاھر: اظہارات۔ مظَاھِر الحیاة: زندگی کے اظہارات۔ فی المَظْھَر: خارجی طور پر، بیرونی ظہور میں، ظاہری طور پر، بظاہر، نظر بظاہر۔ تظھیر: ہنڈی کی پشت پر دستخط، ہنڈی کی پشت پر دستخط کے ذریعہ، ایک سے دوسری جگہ منتقلی۔ ظِھَار: اسلام سے قبل طلاق کی ایک شکل جس میں طلاق دینے والا اپنی بیوی کو کہتا تھا۔ انتِ عَلَیَّ کَظَھْرِ اُمّی: تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہے۔ مُظَاھَرة: مدد، تائید، پشت پناہی، جمع مُظَاھرات: عوامی مظاہرہ، ریلی۔ تَظَاھُر: مکاری، منافقت، تصنع، بناوٹ کچھ اور بن بیٹھنا۔ جھوٹ موٹ کچھ بننا۔ جمع تظاھرات: عوامی مظاہرہ، ریلی۔ ظاھر: جو دکھائی دے، جو محسوس ہو، بین واضح، ظاہر، صاف، نمایاں، خارجی، بیرونی دیکھنے میں، بظاہر، دکھاوے کا، بناوٹی، فرضی، مبینہ، ظاہری صورت یا حالت، سطح، شہر کے دور افتادہ علاقے۔ جمع ظواھر: بیرونی حس احساس، لفظی معنی۔ ظاھر اللفظ: کسی بات کا لفظی معنی۔ الظَاھر أن: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ۔ حسبَ الظَاھر: بیرونی شکل میں، بیرونی طور پر، خارجی طور پر۔ فی الظاھر: بظاہر، ظاہر نظر بہ ظاہر، ظاہر ہے کہ، صاف طور پر۔ فی الظَاھِر و فی ظاھر الامر: بظاہر نظر بظاہر۔ من الظاھر: باہر سے۔ ظَاھِرَة: مظہر عجیب و غریب واقعہ، بیرونی نشان یا علامت، بیرونی علامت۔ ظواھر الحیات: حیاتیاتی مظاہر۔ علم الظواھر الجویة: موسمی پیش گوئی کا فن، موسمیات۔ متظاھر جمع متظاھرون: مظاہرہ کرنے والا۔

ظَوت: الظوءة: احمق آدمی۔

ظَاف: طَاف ـ طُوفًاة: کو دھتکارنا، دفع کرنا۔ ظُوفُ و ظَافُ الرقبة: گردن کا چمڑا یا کھال کہا جاتا ہے۔ ترکه بظُوفِ رقبته او بظَافِها: میں نے اس اکیلا چھوڑ دیا۔

ظوی: اَظْوَی: بیوقوف ہونا، نادان ہونا۔ الظِّیَة: نر نے والی لاش۔ الظَّیّ والظَّیّان: شہد۔ المَظْواة والمَظْیاة من الاراضی: زمین جہاں بہت شہد پایا جاتا ہو۔

ظیا: ظَیَّأَ تَظْییأً ہ: کو غمگین کرنا۔ الظَیْأَة: احمق آدمی۔

ع

ع تلفظ عَین حروفِ تہجی کا اٹھارھواں، حروف ابجد میں ستر کے عدد پر مشتمل ہے۔

عب ا۔ عَبَّ ـُ عَبًّا الماءَ: پانی سانس لئے بغیر یا برتن میں جھک کر اور منہ لگا کر پینا۔ ـ الدلو بھرتے وقت ڈول کا گڑ گڑ کرنا۔ تَعَبَّبَ النبیذَ: شراب کو ڈگڑا کر پینا۔ العَبَاب: پانی پینا، کہتے ہیں۔ اذا أصابت الظباءُ الماءَ فلا عَبَاب وان لم تصبه فلا اباب: یہ مثال اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کر کے اس سے بے نیاز ہو جائے۔

۲۔ عَبَّ ـُ عَبًّا: چہرے کا تغیر کے بعد خوبصورت ہونا۔

۳۔ عَبَّ ـُ عُبَابًا البحرُ: سمندر کی موجوں کا بلند ہونا اور بڑھ جانا۔ العَبّ اولا۔ عَبُّ الشمس: آفتاب کی روشنی۔ العُبُب اچھلتا پانی۔ العُبَابُ بڑا سیلاب، سیلاب کا چڑھاؤ۔ عُبَابُ البحر: سمندر کی موج، لہر کہا جاتا ہے۔ جاؤوا بِعُبَابِهِم وہ سب کے سب چلے آئے۔ العُبِّیَّـه والعِبِّیَّة: غرور، فخر، تکبر۔ الیَعبُوب جمع یَعَابِیب: بہت پانی والا تیز رو دریا۔ لمبا تیز رفتار گھوڑا، بادل۔

۴۔ الأَعَبّ محتاج فقیر، سخت ناک والا۔ العُبّ جمع عِبَاب: آستین کا کنارہ، آستین کی گردن سینہ چھاتی، کہتے ہیں۔ وَضَعه فی عبه: اس نے اس چیز یا بات کو سینے میں چھپالیا۔

۵۔ عَبْعَبَ الجیشُ: لشکر کا شکست کھا جانا۔ تَعَبْعَبَ الشیءَ: کسی چیز کو بالکل برباد کر دینا۔ العَبْعَب چوڑا کپڑا، نرم کمبل جو اونٹ کے بالوں سے بنا ہو۔ ـــــ والعَبْعَاب بلند قامت آدمی۔ کشادہ حلق اور توند والا۔ خوبصورت اور کامل خلقت والا۔

○ عَبَّ ـُ عَبًّا ہ: کو لمبے لمبے گھونٹوں میں پی ڈالنا۔ نگل جانا۔ ـ ہ (مشروب) کو، انڈیل دینا۔ ـ ہ کو چیز چڑ پی جانا، کا سڑ پا لگانا۔ کو سُڑکنا۔ عُبّ و عِبّ: چھاتی کی جیب۔ عُبُـاب: تیز دھاریں، سیلاب، موجیں لہریں، سمندر یَعْبُوبُ تند و پر شور دریا۔

عبا ا۔ عَبَأَ ـَ عَبْأً المتاعَ: سامان تیار کرنا۔ ـ الجیش للحرب: لڑائی کے لئے لشکر کو تیار کرنا۔ الی فلان ولہ: کا ارادہ کرنا۔ لا أَعْبَـأُ بِهِ: میں اس کی تو بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ عَبَّأَ تَعْبِئَةً و تَعبِیئًا المتاعَ: سامان تیار کرنا۔ ـ الجیشَ للحرب: لشکر کو لڑائی کے لئے تیار کرنا۔ التَعْبِئَة (مص) (ا ع): ریاست کی تمام قوتوں کو جن میں مرد اور سامان جنگ گولہ بارود وغیرہ شامل ہیں جنگ کیلئے تیار کرنا۔

۲۔ إعْتَبَأَ ما عنده جو کچھ اس کے پاس ہو لے لینا۔

۳۔ العِبْءُ جمع أعْبَاء بوجھ، گٹھری، بوری۔ ـ والعَبْءُ جمع أعْبَاء: مثل و نظیر۔ العَبَاء جمع أعْبِئَة والعَبَاءَة چوغہ۔ المَعْبَأَة۔

○ مَا عَبَأَ بـ: کی پرواہ نہ کرنا، پر کوئی توجہ نہ دینا، کو کوئی اہمیت نہ دینا، پر اصرار نہ کرنا۔ لا یُعْبَـأُ بِه غیر اہم۔ غیرُ عَابِئ: غیر جانبدار، نہ ادھر نہ ادھر، نہ حامی نہ مخالف۔ عَبَّأَ ہ: کو تیار کرنا، کا انتظام کرنا۔ ـ ہ کی صف بندی کرنا۔ جیشًا فوجوں کو حرکت میں لانا۔ ـ ہ ب: کو سے بھرنا، کو اس میں کچھ ڈال کر بند کرنا، پر سامان لادنا۔ ـ ہ فی کو میں انڈیلنا۔ ـ ہ کو بوتل میں ڈالنا یا بھرنا۔ عِبْءٌ جمع أَعْبَاء علی پر بوجھ پر بار۔ عِبْءُ الإثبات: ثبوت کا بوجھ (burden of proof) نهض او قام بالاعباء کُلِّها سارے بوجھ اپنے اوپر لے لینا، تمام بوجھ اٹھانا۔ تَعْبِئَة: (فوجوں کا) اجتماع mobilization خاص دستہ کی تیاری (drafting)، فوج میں جبری بھرتی۔ (Conscription) بوتلیں بھرنا۔

عبث ا۔ عَبَثَ ـِ عَبْثًا الشیءَ بالشیءِ: ایک چیز کو دوسری سے ملا دینا۔

۲۔ عَبِثَ ـَ عَبَثًا: کھیل کود کرنا، مذاق کرنا۔ ـ بالدین وغیرہ: دین وغیرہ کی توہین کرنا صفت۔ عَابِث وعِبِّیث۔ العَبَث (مص): لغو، بیہودہ، کہتے ہیں۔ فعل ذلك عَبَثًا: اس نے یہ کام لغو کیا۔ عِبِثَةُ الناس: بھیڑ، ہجوم، اراذل۔

۳۔ عَبَوثُران وعَبَیثُران (ن): ایک خوشبودار پودا (ثاء کے فتحہ کے ساتھ بھی آتا ہے)۔

○ عَبِثَ ـَ عَبَثًا حماقت کرنا، ادھم مچانا۔ ـ ب: سے مذاق کرنا، سے دل بہلانا، یونہی کسی چیز کو ہلاتے رہنا، کو خوش اسلوبی سے نبٹانا، سے نبٹنا۔ سے بے ڈھنگے پن سے کام لینا، کو غلط یا ناجائز استعمال کرنا، کے خلاف جرم کرنا، کی خلاف ورزی کرنا، سے تجاوز کرنا، کو نقصان پہنچانا۔ عَابَثَ ہ: سے چھیڑ چھاڑ کرنا، سے اپنا دل خوش کرنا۔ سے دل لگی کرنا، سے چال چلنا۔ عَبَثًا: فضول، بیکار، لاحاصل، بے فائدہ، یونہی، من العبث ان (ایسا کرنا)، احمقانہ اور بے فائدہ ہے۔ ولکن عبثًا استطاع ان یُجیبَهُ لیکن: وہ اسے جواب نہ دے سکا۔

عبدا۔ عَبَدَ ـُ عِبَادَةً و عُبُودَةً و عُبُودِیَّةً و مَعْبَدًا و مَعْبَدَةً اللّٰهَ: اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے آگے خشوع و خضوع کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، کہتے ہیں۔ مَا عَبَدَكَ عنّی: تجھے کس چیز نے مجھ سے روکا۔ عَبُدَ ـُ عُبُودَةً و عُبُودِیَّةً: آباؤ اجداد سے غلامی میں چلے آنا۔ عَبَّدَہ کو فرمانبردار

بنانا، غلام بنالینا۔ — الطریقَ: راستہ یا سڑک بنانا پختہ کر کے آمدورفت کے لائق بنانا۔ — البعیرَ: اونٹ کو قطران ملنا، کہاجاتا ہے۔ مَاعَبَّدَ ان فعل کذا: اس نے ایسا کرنے میں دیر نہیں کی۔ أَعْبَدَهُ الغلامَ: کو لڑکے کا مالک بنانا۔ — الغلامَ: کو غلام بنانا۔ تعَبَّدَ: عبادت کیلئے علیحدہ ہونا۔ — ہٗ: کو فرمانبرداری کے لئے بلانا، کو غلام بنانا، سے اپنے غلام کا سا برتاؤ کرنا۔ اِعْتَبَدَ و اِسْتَعْبَدَهُ: کو غلام بنانا۔ العَبْدُ جمع عَبِید وعِبَاد و عَبَدَة و عَبْدُون و أَعْبُد و عُبْدَان وعِبْدان و عِبِدّان و أَعْبَاد و جج أَعَابِد و مَعَابِد و أَعْبُدَة: انسان، آزاد ہو یا غلام۔ غلام مملوک، حبشی۔ عبدٌ قِنٌّ و عبدُ قِنٍّ: خالص غلام، خاندانی غلام۔ العِباد عَبْد کی جمع۔ حیرۃ کے چند عرب نصرانی قبیلے، نسبت کے لئے عِبَادِیٌّ آتا ہے۔ العَابِد (فا) جمع عَبَدَة و عُبَّاد و عَابِدُوْن م عَابِدَة جمع عابدات و عوابد: خادم۔ العَبْدِیَّة و العُبُودَة و العُبُودِیَّة والتَّعْبِیدَة: غلامی (آقاؤں کی)۔ اطاعت۔ المَعْبَد جمع مَعَابِد و المُتَعَبَّد: عبادت گاہ۔ المُعَبَّد (مفع) مُعَظَّم و مُکَرَّم، پختہ سڑک۔

۲۔ عَبِدَ — عَبَدًا و عَبَدَةً ہٗ: سے لگا رہنا، جدا نہ ہونا۔ — علی الشیء: کا حریص ہونا۔ صفت عَابِدٌ و عَبِدٌ۔ العَبَدَة: بقاء۔

۳۔ عَبِدَ — عَبَدًا و عَبَدَةً الرجُلُ: نادم ہونا۔ علی نفسه: اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ — ما قاله: اپنے کا انکار کرنا۔

۴۔ عَبِدَ — عَبَدًا وعَبَدَةً علی فلانٍ: پر غضبناک ہونا ہے۔ — منه: پر منہ ناک بھنویں چڑھانا۔ العَبَدَة: خود داری، شرمیلا پن، شرم، حقارت۔

۵۔ عَبَدَ الرجُلُ: جلدی کرنا، بھاگ جانا، کہتے ہیں۔ عَبَّدَ یعدو: وہ کچھ تیز دوڑا۔ تَعَبَّدَ القومُ: قوم کا متفرق ہونا۔ العَبَادِید و العبابید: (واحد کے بغیر) لوگوں کے فرقے یا گھوڑوں کے گلے، دور دراز راستے۔

۶۔ أَعْبَدَ القومُ: اکٹھے ہونا، جمع ہونا۔

۷۔ العَبَدَة: طاقت، موٹاپا۔ — دراهمُ عَبْدِیَّة: قدیم درہم۔ المِعْبَد جمع مَعَابِد: کسی، پھاوڑا۔ المُعَبَّد: میخ، کھونٹی۔

ⓤ عَبَدَ ـُـ عِبادةً و عُبُودةً و عُبُودِیَّةً ہٗ: (خدا، اللہ تعالیٰ، دیوتا، بت) کی بندگی کرنا، کا بندہ ہونا، کی عبادت کرنا، پرستش کرنا، پوجا کرنا۔ — ہٗ: (اللہ تعالیٰ یا انسان) کی بندگی کرنا، پرستش کرنا۔ کو پوجنا، کی تعظیم کی کرنا، کا احترام کرنا، سے عقیدت رکھنا، کو مثالی سمجھنا، دیوی، دیوتا بنانا، پوجنا، معبود ٹھہرانا۔ عَبَّدَهٗ: کو غلام بنانا، کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، کو زیر نگین کرنا، کو محکوم بنانا۔ — ہٗ: سڑک بنانا، کو آمدورفت کے قابل بنانا۔ تعَبَّدَ: اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے وقف کرنا، نذر کرنا، مخصوص کرنا۔ اِسْتَعْبَدَهٗ: کو غلام بنانا، کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، کو زیر نگین کرنا، عَبْد جمع عَبِید عُبْدان و عِبدان: غلام، زمین کیساتھ بک جانے والا غلام، کاشتکار، نوکر، ملازم جمع عِبَاد: اللہ کا بندہ، انسان، العِبَاد: انسانیت، نوع انسانی، عبد اللّاوِی و عبد لاوی: خربوزہ کی ایک قسم، عَبْدَة جمع عبدات: لونڈی، زمین کیساتھ بک جانے والی لونڈی۔ عَبَادُالشمس عَبَّادَةُ الشمس: سورج مکھی۔ عِبادة: عبادت، پرستش، پوجنا، تعظیم، احترام، عِبادات: عبادات، پوجا پاٹ۔ تعبید الطرق: سڑک کی تعمیر، عابد جمع عابدون و عُبَّاء و عَبَدَة: عبادت کرنے والا۔ معبود: جس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، پوجا کی جائے، معبود، دیوتا، خدا، اللہ۔ مُعَبَّد: قابل گزر، ہموار، پختہ (سڑک)۔ عَبَدان مغربی ایران کا جزیرہ اور شہر، تیل کا مرکز۔

عبر: ۱۔ عَبِرَ ـُ عَبَرًا: غم زدہ ہونا، کا آنسو بہنا۔ — العینُ: آنکھ کا آنسوؤں سے ڈبڈبانا۔ عوام کہتے ہیں عبرت العینُ علیه: کی حرمت جاتی رہنا۔ عَبَرَ — عَبَرًا: کا آنسو بہنا، صفت عَابِر (مذکر و مونث) عَبَّرَ به الأمرُ: کام کا کسی پر دشوار ہونا۔ اسْتَعْبَرَ: آنسو بہانا، غمگین ہونا۔ و — ت العینُ: آنکھ کا ڈبڈبا آنا۔ العُبْرُ: وہ عورت جس کا بچہ گم ہوگیا ہو۔ — والعَبَر: آنکھ کی گرمی جو رلاتی ہے۔ العَبِر م عَبِرَة و العَبْران م عَبْرَی جمع عَبَارَی: غمگین، آنسو بہانے والا، اشکبار۔ العَبْرَة جمع عِبَر و عَبَرات: آنسو، غم۔

۲۔ عَبَرَ ـُ عَبْرًا الدراهمَ: درہموں کو پرکھنا۔ — الکتابَ: کتاب کا خاموش مطالعہ کرنا۔ — عَبْرًا و عِبارةً الرُّؤیا: خواب کی تعبیر کرنا۔

عَبِرَ — عَبَرًا منه: سے عبرت حاصل کرنا۔ عرب کہتے ہیں: اللهمَّ اجعلنا ممن یعبرُ الدنیا ولا یعبرُها: اے خدا ہمیں ان لوگوں سے کر جو دنیا سے عبرت حاصل کرتے اور بغیر تیری رضا مندی حاصل کئے جلدی سے نہیں مرجاتے۔ عَبَّرَ الرؤیا: خواب کی تعبیر کرنا — عما فی نفسه: دل کی بات ظاہر کرنا، مافی الضمیر کا اظہار کرنا۔ — عن کذا: کے بارے میں کہنا، بات کرنا۔ الدراهمَ: درہموں کا وزن کرنا اور ان کی مالیت معلوم کرنا۔ اعتبر الشیءَ: کو آزمانا، شمار کرنا۔ — الرجُلَ: پر اعتبار کرنا۔ — منه: پر تعجب کرنا۔ — به: سے نصیحت حاصل کرنا۔ اِسْتَعْبَرَ الدراهمَ: دراہم کو پرکھنا اور شمار کرنا۔ — ہٗ الرؤیا والدراهمَ: سے خواب کی تعبیر اور درہموں کی مالیت بتانے کے لئے کہنا۔ العَابِر جمع عَابِرُون و عُبَّار وعَبَرَة م عابِرَة: غور کرنے والا۔ العِبْرَة جمع عِبَر: نصیحت (کہتے ہیں۔ لك بفلان عِبْرَة: تیرے لئے فلاں شخص میں نصیحت ہے) تعجب۔ وہ اصل جو نظائر کا مرجع ہو۔ حالات پر نظر۔ العِبارة (مص): عَبَّرَ کا اسم معنی پر دلالت کرنے والے الفاظ، کہاجاتا ہے فلانٌ حسنُ العبارة: فلاں شخص خوش بیان ہے۔ هذا عِبَارَةٌ عن کذا: یہ اس کے ہم معنی ہے اور دلالت میں برابر ہے۔ مقدار یا ترکیب یا افادۃ العَبَّار: خوابوں کی تعبیر کرنے والا۔

۳۔ عَبَرَ — عَبْرًا و عُبُورًا السبیلَ: راستہ طے کرنا، گزرنا، مرنا۔ — النهرَ و الوادیَ: نہر یا وادی عبور کرنا۔ — به الماءَ: کو پانی پار کرانا۔ عَبَّرَهُ بالماء: کو پانی پار کرانا، کو پانی سے گزارنا۔ — به: کو ہلاک کرنا، العَابِر (فا) جمع عَابِرُون و عُبَّار و عَبَرَة م عَابِرَة: گزرنے والا، کہاجاتا ہے۔ دخلَ عَابِرَ سبیل: وہ داخل ہوا، بغیر ٹھہرے، گذرتے ہوئے۔ العَابُور: نقل مکانی کرنے والے پرندے۔ العُبْر: مضبوط قوی (واحد جمع، مذکر مونث) کہاجاتا ہے۔ جمالٌ عُبْر أسفار: یعنی چلنے میں قوی اونٹ۔ — : بہت تیز چلنے والے بادل۔ العُبُر و العِبْر: قوی، مضبوط (واحد جمع مذکر مونث) کہتے ہیں۔ جمال عِبْرُ أسفار: چلنے میں قوی اونٹ۔ فلانٌ عِبْرٌ لکلّ عمل: فلاں ہر کام کے لائق اور اس کا ماہر ہے۔ — من الوادی: دریا کا ساحل اور کنارہ۔ العَبْرَة جمع عِبَر و عَبَرَات: عبر کا اسم مرۃ۔ العَبَّار: عابر کا اسم مبالغہ۔ جَمَلٌ عَبَّار: چلنے میں قوی اونٹ۔ المَعْبَر: گزرگاہ، گھاٹ۔ المِعْبَر و المِعْبَرَة: دریا عبور کرنے کا ذریعہ، جیسے کشتی پل۔

۴۔ العُبْر: ہر چیز کی زیادتی، انسانوں کا گروہ، بھیڑ۔ (خ): عقاب۔ مجلسٌ عَبْرٌ و مجلسٌ عِبْرٌ: بہت سے آدمیوں کی مجلس۔ بناتُ عِبْرٍ: جھوٹ، باطل، ابو بنات عبر: جھوٹا۔ العِبْرِی و العِبرانی: یہودی۔ یہودیوں کی زبان۔ العِبرانِیَّة: یہودیوں کی زبان، یہودیت۔ العَبِیر: مرکب خوشبو، سهمٌ عَبِیر: بہت سے پروں والا تیر۔ قوم عَبِیر: بہت سے لوگ۔ المُعْبَر: بہت سے بالوں یا پروں والا۔

○ عَبَرَ۔ عَبْرًا و عُبُورًا ہ: کو پار کرنا، کو قطع کرنا، میں سے گزرنا، کو پایاب مقام سے پار کرنا، میں سے ہو کر گزرنا، کے اوپر سے گزرنا، کو کشتی میں پار کرنا۔ ــــ: (وقت کا) گزرنا، مرجھانا، نمٹنا، مرجانا۔ عَبِرَ ــَــ عَبَرًا: آنسو بہانا۔ عَبَّرَ ہ: خواب کی تعبیر بتانا۔ ــــ عن: کو صاف صاف بیان کرنا۔ کا اعلان کرنا، کو وثوق سے کہنا، کا اظہار کرنا۔ ــــ ہ: سکہ کا وزن متعین کرنا، کو وزن کرنا۔ اِعْتَبَــرَ: نصیحت حاصل کرنا، خبردار کیا جانا، سبق حاصل کرنا۔ ــــ ب: سے سبق حاصل کرنا، سے عبرت حاصل کرنا۔ ــــ ہ کو خیال کرنا، سمجھنا، کو وزن کرنا، کو حساب میں رکھنا۔ ــ ہ / ہ ہ. کو کچھ سمجھنا۔ ــ ہ کی عزت کرنا، احترام کرنا، کا پاس کرنا۔ اِسْتَعْبَرَ: آنسو بہانا، رونا۔ عَبْرة جمع عَبَرات و عِبَر: آنسو۔ عِبْرة: عبرت، مثال، سبق، نصیحت، قاعدہ، وعظ، ونصیحت، پند و مواعظت، اہم بات چیز وغیرہ فیصلہ کن (بات) مَوْطِنُ العبرة: اہم نقطہ فیصلہ کن یا قطعی نقطہ۔ لاعِبْرة به: یہ بات توجہ کی مستحق نہیں، اہم نہیں۔ العِبْرة ب / في: فیصلہ کن یا قطعی عامل یا عوامل یہ ہے یا یہ ہیں۔ فیصلہ کن بات یہ ہے۔ لاعبرة ملن: اگر کوئی...... تو یہ بات اہم نہیں۔ بِعبارة أخرى: دوسرے لفظوں میں عبارة فعبارةً: جملہ بہ جملہ، لفظ بہ لفظ، عبارة عن: پر مشتمل، کے مترادف، کے مساوی، کا ہم معنی، کا معنی مَعْبَر جمع مَعَابِر: عبور کرنے کی جگہ، گزرگاہ، پایاب مقام، تنگ درہ، گھاٹی، لوبی، مِعْبَـر: عبور کرنے کا ذریعہ، گھاٹ، گھاٹ کی پار لے جانے کی کشتی، پل۔ تَعْبِير: اظہار، اصطلاح۔ بتعبير آخر: دوسرے لفظوں میں اعتبـارًا ل/ب: کے بارے میں، کے متعلق، کے پیش نظر، اعتبارًا من: سے، سے شروع ہو کر، سے موثر۔ باعتبار الشي: کے بارے میں، کے پیش نظر۔ باعتبار ان: اس حقیقت کے پیش نظر کہ، باعتباره: بحیثیت، بطور، کے الفاظ میں، باعتباره اقدم الوزراء: کے سینئر وزیر ہونے کی حیثیت سے۔ بهذا الاعتبار: اس نقطہ نظر سے علی اعتبار ان: اس حقیقت کے پیش نظر کہ علی هذا الاعتبار: اس نقطہ نظر سے۔ في كل اعتبار: سب پہلوؤں سے، ہر پہلو سے۔ اعتبـارًا او حقيقةً: موضوعی نقطہ نظر سے یا فی الحقیقت۔ صاروخ عابرُ القارات: بین البراعظمی بیلسٹک میزائل (ICBM)۔

عبس: ا۔ عَبَس ــِــ عَبْسًا و عُبُوسًا: تیوری چڑھانا۔ ــ الوجهُ: ترش روئی کرنا۔ عَبَّس الوجهُ: ترشروئی کرنا۔ ــ وجهَهُ: تیوری چڑھانا۔ تَعَبَّس: ترش رو ہونا۔ العُبُوس و العَبَّاس: بہت ترش رو۔ شیر۔ یوم عَبوسٌ: سخت دن۔

۲۔ عَبِسَ ــَــ عَبَسًا البعيرُ: اونٹ کی دُم پر خشک مینگنی ہونا۔ ــ الوسخُ في يده و عليها: کے ہاتھ میں یا ہاتھ پر میل خشک ہونا۔ اَعْبَسَ الرجلُ: میلا ہونا۔ ــ ت الابلُ: دم پر خشک مینگنی والا ہونا۔ ــ الثوبُ: کپڑے پر میل کا خشک ہو جانا۔ العَبَسَ: اونٹ کی دم پر خشک مینگنی و پیشاب۔

○ عبرود: بندوق۔

○ عَبَسَ ــِــ عَبْسًا و عُبُوسًا: تیوری چڑھانا، ناک منہ چڑھانا، گھورنا، تیز نظروں سے دیکھنا۔ عبس في وجهه: کو کڑے تیوروں سے دیکھنا۔ عَبُوس: تیوری چڑھانے والا، کڑے تیوروں سے دیکھنے والا، اداس غمگین۔ عَبُوسه: تیوری، کڑی تیوری، اداس نظر، اداس چڑچڑا بیزار اور سخت۔ عُبُوس: اداسی، بے کیفی، سختی، سنجیدگی۔ عــابــس: تیوری چڑھانے والا، کڑے تیوروں سے دیکھنے والا، اداس، غمگین، حزین۔ عَبَّاسی جمع عباسيون: عباسی (خاندان سے تعلق رکھنے والا)۔

عبش: عَبَش ــُــ عَبْشًا الشيَ: کی اصلاح کرنا، کو درست کرنا۔ العَبْش (مص): درستی، اصلاح۔ ــ والعَبَشَ و العُبْشة: غباوت، کند ذہن ہونا۔ العُبْشَة والعَبَشَة: غفلت۔

عبط: ا۔ عَبَطَ ــِــ عَبْطًا الذبيحةَ: موٹے تازے جانور کو ذبح کرنا۔ ــ الضرعَ: تھن کو خون آلود کرنا۔ ــــ ت الدواهي فلانًا: پر بلاسبب مصیبت پڑنا۔ ــ الكذبَ عليه: پر بلاوجہ جھوٹ بولنا۔ ــ فلانٌ الشيَ: کو صحیح پھاڑنا۔ ــ الشيُ: پھٹنا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ عَبَطَهُ: اس نے اسے بازوں میں لے کر چھاتی سے لگالیا۔ أعْبَطَهُ الموتُ: بحالت تندرستی و جوانی مرجانا۔ اِعْتَبَطَ الذبيحةَ: موٹا جانور ذبح کرنا۔ ــ هُ الموتُ: بحالت تندرستی و جوانی مرجانا۔ ــ الرجُلَ: کو ظلماً قتل کر دینا۔ ــ الرجُلُ: بخار میں مبتلا ہونا، زخمی ہونا۔ العَبْط: گھڑا ہوا جھوٹ، سفید جھوٹ۔ العَبْطة: اسم مرة۔ کہا جاتا ہے۔ مَاتَ عَبْطَةً: وہ بحالت تندرستی جوانی میں مرگیا۔ العَبِيط جمع عُبُط و عِبَاط: وہ ذبح کردہ جانور، جو موٹا تازہ اور تندرست ہو۔ دم عَبِيط: خالص تازہ خون، اَدِيمٌ عبيط: پھٹا ہوا چمڑا۔ الحذف الاعتباطي عند النحاة: بغیر کسی علت کے حذف کرنا۔

۲۔ عَبَط ــِــ عَبْطًا الترابَ: مٹی اڑانا۔ ــ ت الريحُ وجهَ الأرض: ہوا کا سطح زمین کو صاف کر دینا۔

۳۔ عَبَطَ۔ عَبْطًا الرجُلَ: کی غیبت کرنا۔ ــ عِرضَهُ: گالی دینا اور بے آبرو کرنا۔ اعتبط العِرْضَ: دینا اور بے آبرو کرنا۔

○ عبيط: کند ذہن، غبی، فاتر العقل، احمق، بے وقوف۔ ــ اعتباطا: یونہی، بے سوچے سمجھے۔ اتفاق سے، من مانے طور پر۔

عبق: ا۔ عَبِقَ ــَــ عَبَقًا و عَبَاقَةً و عَبَاقِيَةً الطيبُ به: کو خوش بو لگنا۔ ــــ المكانُ بالطيب: کسی جگہ میں خوشبو پھیل جانا، جگہ کا خوشبو سے مہک جانا۔ ــ فلانٌ بالشي: کا حریص ہونا، پر فریفتہ ہونا، کا گرویدہ ہونا۔ ــــ بالمكان: میں رہائش اختیار کرنا۔ عَبَّقَ رائحةَ الطيب: خوشبو پھیلانا۔ العَبِقَ: خوشبودار، وہ چیز جس سے خوشبو مہکے۔ رجُلٌ عبقٌ لَبِقٌ: خوش مزاج آدمی۔ العَبَقَة: گھی وغیرہ کا بقیہ، سانس رکنے کا عارضہ۔ العَبَاقِيَة: چہرے پر زخم کا نشان۔

۲۔ العَبَاقِيَة: مکار اور شاطر آدمی۔

۳۔ عَبْقَرَ عَبْقَرَةً السرابُ: سراب کا چمکنا۔

۴۔ عَبْقَرة: ایک جگہ جس کے متعلق عربوں کا خیال تھا کہ وہاں بہت جن رہتے ہیں۔ العَبْقَرِيّ م عبقرِيَّة: عبقر کی طرف منسوب، سردار، ہر چیز سے برتر۔ جس کا کمال، طاقت اور مہارت تعجب انگیز ہو۔ ــ والعَبْقَرِيّ: ایک قسم کا عمدہ قالین۔ العَبْقَرِية: عبقری کی کیفیت، شاعر اور ادیب کی قوت تخلیق۔

○ عَبِقَ ــَــ عَبَقًا ب: سے چمٹنا، خوشبو کا مہکتے رہنا۔ خوشبو دینا، خوشبو سے مہکنا، عَبِق: خوشبودار۔ عَبَقَة: سینہ پر دباؤ، سانس گھٹنے کا احساس۔ عــابق: خوشبودار۔ عَبْــقــر: جنوں کا فرضی مسکن، پرستان، حیرتوں کی سرزمین۔ عَبْقَرِی: رنگین قالین، طباع، خوش تدبیر، ایجاد کا ماہر، اختراع پسند، ملنسار، خوش مزاج، جمع عَبْقَرِيُون و عَبَاقِرَة: طباع شخص، خوش تدبیر شخص، غیر معمولی ذہین۔

عبك: عَبَكَ ــُــ عَبْكًا الشيَ بالشي: چیز کو چیز میں ملانا۔ العَبَكَة: ٹکڑا یا تھوڑی چیز۔ مشک کا میل، رسی کی گرہ، کہتے ہیں۔ يبلى الحبل وتبقى العَبَكَة: رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔

○ عَبَك: اونی کپڑا۔

عبل: ا۔ عَبَلَ ــِــ عَبْلاً الشجرةَ: درخت کے پتے جھاڑنا۔ ــــ الشجرُ: درخت کے پتے نکلنا۔ ــــ الشيَ: کو کاٹنا۔ ــ به: کو لیجانا۔ أعْبَلَ الشجرُ: درخت کا نکلے ہوئے پتوں والا ہونا، درختوں کے پتے گرنا۔ ــ العَبَل جمع عُبَال: گرے ہوئے پتے، نکلے

ہوئے پتے۔

۲- عَبَلَ ـِ عَبْلًا الرحبلَ: رسی بٹنا۔ ـــ الشيَ: کو رد کرنا، کورو کنا۔ اَعْبَلَ الشجرُ: درخت کا لپٹی ہوئی پتیوں والا ہونا۔ العَبَل جمع أعْبَال: لپٹی ہوئی پتیاں۔

۳- عَبَلَ ـِ عَبْلًا الشيَ: کو روکنا۔

۴- عَبَلَ ـُ عَبَلًا و عَبُلَ ـُ عُبُولًا و عَبَالَةً: بڑا ہونا، صفت عَبْل و عَبِل جمع عِبَال و عَابِل جمع عُبَّل م عَبْلَة جمع عَبْلَات و عِبَال: کہا جاتا ہے۔ رجُلٌ عَبْلُ الذراعَين: بڑے بازوں والا آدمی۔ فرسٌ عَبْلُ الشَوَى: موٹی ٹانگوں والا گھوڑا۔ اَعْبَلَ: بڑا اور موٹا ہونا، سفید ہونا۔ ـــ العَبَال (ن): پہاڑی گلاب۔ العَبِيل م عَبِيلَة: بڑا، الأَعْبَل جمع أعْبِلَة: ایک سخت پتھر جو سرخ، سفید اور کالا ہوتا ہے۔ العَبْلاء جمع عِبَال: چٹان، سفید چٹان۔ المِعْبَلَة جمع مَعَابِل: تیر کا لمبا چوڑا پھل۔

○ عَبْلٌ جمع عِبَال: گول مٹول، گداز، موٹے (بازو) عَبَال اسم جنس واحد عَبَالَة: ایک قسم کا جنگلی گلاب اَعْبَل: ایک عمارتی پتھر (گرینیٹ)

عبم: عَبُمَ ـُ عَبَامَةً و عَبَامًا: بیوقوف ہونا۔ ماءٌ عُبَامٌ: بہت پانی۔ العَبَام جمع عُبُم: تھکا ماندہ، سست، موٹا، بیوقوف، بے عقل، بے ادب، بزدل۔

العَبَامَاء: بیوقوف

عبن: عَبَنَ ـُ عَبْنًا: کھردرا اور موٹا ہونا۔ صفت: عَبَنّ و عَبَنّی م عَبَنَاة و عَبَنّيَات۔

عبه ا- العَبْهَر (ن): نرگس، چنبیلی، ـــ و العُبَاهِر: بھرے جسم والا، لمبا۔

۲- عَبْهَلَ ہُ: کو عتاب کرنا۔ الإبلَ: اونٹوں کو آزاد چھوڑنا، العَبَاهِل من الإبل: آزاد چھوڑے ہوئے اونٹ۔ العَبَاهِلَة (واحد عَبْهَل): وہ یمنی بادشاہ جو اسلامی دور سلطنت میں بدستور حاکم رہنے دیے گئے۔

عبا: عَبَا ـُ عَبْوًا: کے چہرے کا دمکنا۔ ـ المتاعَ: سامان تیار کرنا۔ العَبْو (مص): بوجھ، جارية عَابِيَة: حسین لڑکی۔

عبی: عَبَّی تَعْبِيَةً الجيشَ: لشکر کو تیار کرنا اور مسلح کرنا۔ تَعَبَّی: تیار ہونا۔ العَبِيّ: حصہ کہتے ہیں۔ هذا عبيك من الجزور: ذبح کردہ جانوروں سے یہ تمہارا حصہ ہے۔ رجُلٌ عَبَاءٌ و عَبًا: بھاری جسم والا اکھڑ مرد۔ العَبَاية جمع عَبَايات و عَبِيّ: چوغہ۔

○ عَبّی تَعْبِيَةً ہ ب: کو سے بھرنا، کو میں بند کرنا، پیک کرنا، بندوق وغیرہ میں گولی وغیرہ بھرنا، میں کارتوس یا بجلی بھرنا۔ عُبْوَة جمع عُبْوَات: پیکیج، پیک (کسی چیز وغیرہ کا)، ڈبہ، بوتل وغیرہ مع ان چیزوں کے جو اس میں ہوں۔ چیز دان۔ عَبَايَة: چوغہ۔

عت: عَتَّ ـُ عَتًّا ہُ بالمسألة: سے سوال کرنے میں اصرار کرنا۔ ـــ ہُ بالكلام: کو جھڑکی دینا۔ عَاتَّ ہُ: سے جھگڑا کرنا، کے سامنے بات کو برابر دہرانا۔ تَعَتَّتَ في كلامه: بار بار وہی باتیں دہرانا، العَنَت: درشتیٔ کلام۔

عتب: ا- عَتَبَ ـُ عَتْبًا و عُتْبَانًا و مَعْتَبًا و مَعْتَبَةً و مَعْتِبَةً عليه: کو سرزنش کرنا، پر خفگی کرنا۔ ـ عَتْبًا و عِتَابًا و عِتِّيبَى فُلانًا: کو ملامت کرنا۔ عَاتَبَ عِتَابًا و مُعَاتَبَةً ہُ على كذا: پر کو ملامت کرنا، کی وجہ سے پر غصہ کرنا، کو ناز سے خطاب کرنا۔ اَعْتَبَ ہُ: سے ناراضگی کا سبب دور کرنا۔ کو راضی کرنا۔ تَعَتَّبَ القومُ: ایک دوسرے پر اظہار ناراضگی کرنا، کہتے ہیں۔ فلانٌ لا يُتَعَتَّبُ بشي و لا يُتَعَتَّبُ عليه في شي: یعنی اس پر عیب نہیں لگایا جاتا۔ تَعَاتَبَ الرجُلَان: ایک دوسرے پر عتاب کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ناز سے گفتگو کرنا۔ اِسْتَعْتَبَ ہُ: کو رضامند کرنا، سے رضا مندی کی درخواست کرنا، کہتے ہیں۔ اسْتَعْتَبْتُهُ فأعتبني: میں نے اس سے رضا مندی کی درخواست کی تو اس نے مجھے رضامند کر دیا، یعنی ناراضگی دور کر دی۔ ما بعد الموت مُسْتَعْتَبٌ: موت کے بعد طلب رضا کا موقعہ نہیں۔ المِعْتَب: بہت عتاب کرنے والا۔ العُتْبَى: رضا، کہتے ہیں۔ اعطاه العُتْبَى: اس نے اسے رضامند کر لیا۔ الأُعْتُوبَة جمع اعاتِيب: سبب عتاب۔ العَتُوب: وہ شخص جس پر عتاب کا اثر نہ ہو۔ المَعْتَبَة و المَعْتِبَة (مص): عتاب غضب۔ المَعْتُوب (مفع): جس پر عتاب کیا جائے۔

۲- عَتَبَ ـُ عَتْبًا و عَتَبَانًا و تَعْتَابًا: ایک پاؤں پر کودنا۔ ـــ البعيرُ: اونٹ کا تین ٹانگوں پر چلنا۔ عَتَّبَ الرجُلُ: دیر کرنا۔ العَتْب (مص): لنگڑاپن، کہتے ہیں۔ برجله عَتَبٌ: اس کے ایک پاؤں میں لنگ ہے۔

۳- عَتَبَ ـِ عُتْبَانًا من مكان إلى مكان و من قول الى قول: ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہونا۔ أَعْتَبَ عنه: سے پھر جانا۔ اِعْتَتَبَ: معاملہ میں میانہ روی اختیار کرنا۔ ـ منه و عنه: سے پھر جانا۔ ـ الطريقَ: آسان راہ کو چھوڑ کر دشوار راہ اختیار کرنا۔ العَتَب و العَتَبَة: سخت زمین العُتُبَة: وادی کا موڑ۔ العَتُوب: راہ۔

۴- عَتَبَ ـِ عُتْبَانًا البرقُ: بجلی کا بار بار چمکنا۔

۵- عَتَّبَ البابَ: دروازہ کی دہلیز بنانا۔ ـ عَتَّبَةً: کو دہلیز بنانا۔ تَعَتَّبَ بابَ فلان: کے دروازہ پر قدم رکھنا، کی دہلیز پر پڑا رہنا۔ العَتَبَة جمع عَتَب و عَتَبَات: چوکھٹ، سیڑھی کا قدمچہ، پایہ۔

۶- العَتَب: سبابہ اور بیچ کی انگلی یا بیچ والی اور چھنگلیا کے پاس والی انگلی کا درمیانی حصہ، فساد۔ ـــ و العَتَبَة: ناپسندیدہ بات یا معاملہ۔ سختی عَتَبَاتُ الموت: موت کی سختیاں۔

○ عَتَبَ ـُ عَتْبًا و مُعْتَبًا على: کی عیب جوئی کرنا، کو الزام دینا، کو قصور وار ٹھہرانا، کو ملامت کرنا، کی مذمت کرنا، کو جھاڑ جھپاڑ کرنا، سرزنش کرنا، عَتَبَ بابَه: کی دہلیز پار کرنا۔ عَتَّبَ: ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، تامل ہونا، تامل کرنا، سست ہونا، دیر کرنا، عَاتَبَ ہُ على: کو کا الزام دینا، کو پر ملامت کرنا، کی پر مذمت کرنا، کو پر جھاڑ جھپاڑ کرنا، کو پر سرزنش کرنا، عَتْب: عیب جوئی، الزام تراشی، الزام، ملامت، زجر و توبیخ، ڈانٹ، ڈانٹ ڈپٹ، جھاڑ جھپاڑ، سرزنش، سرکاری سرزنش۔ عَتَبَة جمع عَتَب و أَعْتَاب: چوکھٹ، دہلیز، سردل۔ العتبة العليا: چوکھٹ، دہلیز، قدمچہ، سیڑھی۔ عِتَاب: سرزنش، جھاڑ جھپاڑ، الزام تراشی، ڈانٹ ڈپٹ، مُعَاتَبَة: جھاڑ جھپاڑ۔ سرزنش، زجر و توبیخ۔

عتد: ا- عَتُدَ ـُ عَتَادًا و عَتَادَةً الشيُ: تیار ہونا۔ عَتَّدَ و أَعْتَدَ الشيَ: کو تیار کرنا۔ العَتَاد جمع اَعْتُد و عُتُد و اَعْتِدَة: وہ سامان جو کسی مقصد کے لئے تیار کیا جائے۔ سامان جنگ جیسے اسلحہ، جانور، لڑنے کے آلات وغیرہ۔ العَتَد و العَتِد من الخيل: دوڑ کے لئے تیار کیا ہوا گھوڑا مضبوط، صحیح سالم (مذکر و مونث)۔ العُتُدَة جمع عُتُد: سامان، کہا جاتا ہے۔ خذ للامر عُتُدَتَهُ: کام کے لئے اس کا سامان لے لو۔ العَتِيد: حاضر و تیار العتيدة: العتيد کا مونث سنگھار دان۔

۲- تَعَتَّدَ في صنعته: کام کو احتیاط سے کرنا، باریک بینی سے کرنا۔

۳- العَتَاد جمع أَعْتُد و عُتُد و أَعْتِدَة: بڑا پیالہ۔ العَتِيد: بھاری جسم کا۔

○ عَتُدَ ـُ عتادا: تیار ہونا۔ أَعْتَدَ ہ: کو تیار کرنا، عَتَاد جمع اَعْتُد و أَعْتِدَة: ساز و سامان، ساز و یراق (جنگی) سامان، مال سامان گولہ بارود (Ammunition) عتاد حربي: سامان جنگ، سامان، گولہ بارود (Ammunition) عتيد: تیار، مستقبل کا، آنے والا، عنقریب ہونے والا، قریبی، آئندہ، محترم، مقدس، باضابطہ۔

عتر :١۔ عَتَرَ ـِ عَتْرًا العتيرةَ: عتیرہ ذبح کرنا، العِتْر: ہر وہ جانور جو ذبح کیا جائے۔ والعَتِيرة جمع عَتائِر: وہ بکری جسے عرب ماہ رجب میں اپنے معبودوں کے لئے ذبح کیا کرتے تھے۔

٢۔ عَتَرَ ـِ عَتْرًا و عَتَرَانًا الرمحُ: نیزہ کا ہلنا۔ العِتْر: بکواس۔

٣۔ عَتَرَ ـِ عَتْرًا الشيءُ: مضبوط ہونا۔ رجُلٌ عِتْرٌ: قوی مرد (عام زبان میں)۔ العَتَّار: بہادر، مضبوط طاقت ور گھوڑا۔ المُعَتَّر من الرجال: موٹا آدمی۔

٤۔ العِتْر: اصل، اسی سے ضرب المثل ہے۔ عادت الى عِتْرِها لَمِيسُ: لمیس اپنی اصل کی طرف لوٹ گئی، یہ ضرب المثل ایسے شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو اپنی پرانی عادت کی طرف پھر لوٹ جائے۔ العِترة: اولاد، کنبہ، خالص مشک کا ٹکڑا، خشک گوار تھوک، (ن): مرزنجوش (نباتات)۔ المُعَتَّر: سخت بدحال

٥۔ العُتْرُب (ن): سماچ (درخت)

٦۔ عَتْرَسَ هٗ: کو سختی سے کھینچنا، زور سے پکڑنا، تشدد سے لے لینا۔ ـ هٗ مالَهٗ: کا مال غصب کرنا۔ العِتْرِس و العَتَرَّس: سختی سے کھینچنے والا، بڑے ڈیل ڈول کا موٹے جوڑوں والا۔ (ح) شیر (ح) مرغ۔ العِتْرِيس: سخت غضبناک و سرکش۔ مصیبت۔ بلا

٧۔ عَتُرفَ له: کے لئے سخت ہونا۔ تَعَتْرَفَ: نخوت پسند و متکبر ہونا۔ ـ العُتْرُوف و العِتْرِيف جمع عَتارِيف: خبیث، فاجر، مضبوط اونٹ۔

عتف: عَتَفَ ـِ عَتْفًا الشَعَرَ: بال اکھیڑنا، العِتْفُ من الليل: رات کا ایک حصہ۔

عتق :١۔ عَتَقَ ـِ عَتْقًا و عِتْقًا و عَتَاقًا و عَتَاقَةً العبدُ: غلام کا آزاد ہونا، صفت۔ عتيق و عاتِق، أَعْتَقَ العبدَ: غلام کو آزاد کرنا الـعِتْق: آزادی۔ العُتْق: آزادی۔ العاتِق جمع عُتَّق: کنواری۔ العَتيق جمع عُتَقاء و عُتُق: آزاد کردہ غلام۔ امَةٌ عَتِيق: آزاد کردہ لونڈی۔

٢۔ عَتَقَ ـُ عُتْقًا و عِتْقًا و عَتُقَ ـُ عَتاقَةً قدیم ہونا، پرانا ہونا۔ ـ ت الخمرُ شراب کا پرانا اور عمدہ ہونا۔ صفت عاتِق و عَتِيق و عُتاق۔ ـ ت اليمينُ عليه: پر قسم کا واجب ہونا، کہا جاتا ہے: على فلان يمين عتقت: فلاں پر قسم واجب ہوگئی۔ عَتَّقَ الخمرَ: شراب کو پرانی کرنا۔ ـ الثوبَ: کپڑے کو پرانا کرنا۔ العِتق و العُتق: کہنگی۔ العاتِق جمع عُتَّق: عمدہ شراب، پرانی شراب، کشادہ مشک۔ ـ والعاتِقة: پرانی سرخ کمان۔ العُتاق: پرانی عمدہ شراب۔ العَتِيق جمع عُتَقاء و عُتُق: کہنہ، قدیم، پرانا۔ البيتُ العتيق: کعبہ شریف۔ العَتِيقة جمع عَتائِق: عتیق کا مونث۔ المُعَتَّقَة: پرانی عمدہ شراب، ایک قسم کا عطر۔

٣۔ عَتَقَ ـُ عَتْقًا و عِتْقًا و عَتُقَ ـُ عَتاقَةً الشيءُ: درست ہونا۔ أَعْتَقَ مالَه: اپنا مال ٹھیک کرنا۔ العِتق (مص): خالص الاصل ہونا، حسن و جمال، شرافت نجابت۔ العُتْق (ن): درخت جس سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔ العَتِيق جمع عُتَقاء و عُتُق: کریم، عمدہ، فرسٌ عَتِيقٌ جمع عِتاق: خوش منظر گھوڑا۔ العتيقة جمع عَتائِق: عتیق کا مونث۔

٤۔ عَتَقَ ـِ عَتْقًا الفرسُ: گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں سے دوڑ میں آگے نکل جانا۔ أَعْتَقَ الفرسَ: گھوڑے کو تیز دوڑانا۔

٥۔ عَتَّقَ فلانا بفيه: کو منہ سے کاٹ کھانا۔

٦۔ العُتُق جمع عاتق: کندھے۔ العاتِق جمع عواتق و عُتُق (ع ا): کاندھا۔ عاتِقُ الثريّا (فلك): ایک ستارہ کا نام۔

○ عَتُقَ ـُ عَتاقَةً و عَتَقَ ـِ عَتْقًا و عِتقًا: پرانا ہونا، بوڑھا ہونا، (شراب کا) پختہ ہونا، شیریں ہونا۔ عَتَقَ: (غلام کا) آزاد ہونا۔ أَعْتَقَ هٗ: کو (خصوصا غلام کو) آزاد کرنا۔ إنْعَتَقَ من: سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ عِتق: مدت (خصوصا شراب کی)...... آزادی (غلامی کی ضد)، عَتِيق: پرانا، قدیم، پختہ، پرانی لذیذ (شراب)، قدیم روایت کا، مدتوں کا، کہنہ، فرسودہ، دقیانوسی، متروک، غیر مروج، آزاد کردہ غلام، شریف، اونچے خاندان کا۔ عتيق الطراز: پرانی وضع کا، دقیانوسی، عاتِق جمع عَواتِق: کندھا۔ اخذه على عاتقه: اپنے ذمہ لینا، کا کام سنبھالنا۔ القى المسؤولية على عاتقه: پر ذمہ داری ڈالنا، وقع على عاتق فلان: کے خرچ پر ہونا، کے حصہ میں آنا۔

عتك :١۔ عَتَكَ ـِ عَتْكًا و عُتُوكًا: لڑائی میں حملہ کرنا۔ ـ الفرسُ: گھوڑے کا کاٹنے کے لئے حملہ کرنا۔ ـ على الأمر: کسی کام کرنے کا خطرہ مول لینا۔ الى المكان: کسی جگہ کی طرف مڑنا۔

٢۔ عَتَكَ ـِ عَتْكًا و عُتُوكًا البلدَ: شہر پر ظلم کرنا۔ ـ عليه بخير او شرّ: کے ساتھ بھلائی یا برائی سے پیش آنا۔

٣۔ عَتَكَ ـِ عَتْكًا و عُتُوكَاتِ القوسُ: کمان کا پرانی ہونے کی وجہ سے سرخ ہونا، صفت: عاتِكة جمع عَوَاتِك۔ احمر عاتِكٌ: تیز سرخ۔ العاتِك: کہنگی کی وجہ سے سرخ۔ ـ من الايام: سخت گرم دن۔

٤۔ عَتَكَ ـِ عَتْكًا و عُتُوكًا اللبنُ: دودھ کا سخت کھٹا ہونا۔

٥۔ العَتْك: زمانہ، کہا جاتا ہے: مَضَى عليه عتكٌ: اس پر ایک زمانہ گزر گیا۔ العاتِك: کریم۔ ہر خالص چیز اور رنگ، البنيذ العاتِك: صاف شراب۔

○ عتك ـِ عتكًا: حملہ کرنا۔ عاتِك: صاف، خالص، نتھری ہوئی (شراب بالخصوص)۔

عتل :١۔ عَتَلَ ـِ ـُ عَتْلاً هٗ: کو سختی سے کھینچنا، کہا جاتا ہے۔ عَتَلَهُ إلى السجن: اس نے اسے زور سے جیل میں دھکیل دیا۔ ـ الشيءَ: چیز کو اٹھانا۔ عَتَلَ ـُ عَتلاً الى الشر: برائی کی طرف جلدی کرنا صفت عَتِل، تَعَتَّلَ: اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ إنعَتَلَ: کھنچ جانا۔ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، کہا جاتا ہے۔ لا انعتلُ معك شبرًا: میں اپنی جگہ سے ایک بالشت بھی نہیں ہٹوں گا۔ العَتَلَة جمع عَتَل: مٹی کا بڑا ڈھیلا۔ گدالہ، بڑی لاٹھی۔ العَتّال: بار بردار، قلی۔ العِتالة: بار برداری کا پیشہ۔ العَتِيل جمع عُتُل و عُتَلاء: مزدور، خادم۔ ارلمِعْتَل: کھینچنے یا اٹھانے میں قوی اور مضبوط۔

٢۔ العُتُلّ: بہت کھانے والا، سخت مزاج، ہر سخت چیز۔ داءٌ عَتِيل: سخت بیماری۔

○ عَتَالَة جمع عتل: بیل، گدالا۔

عتم :١۔ عَتَمَ ـِ عَتْمًا عن الامر: کام کرتے کرتے رک جانا۔ عَتَّمَ عن الامر: کام کرتے کرتے رک جانا۔ ـ الطائر: پرندے کا انسان کے سر پر پھڑ پھڑاتے رہنا۔ أَعْتَمَ عن الامر: کام کرتے کرتے رک جانا۔

٢۔ عَتَمَ ـِ عَتْمًا قِرَى الضيف: مہمانی کے کھانے میں دیر کرنا۔ ـ الليلُ: رات کا ایک حصہ گزر جانا۔ ـ ـُ عَتْمًا و تَعَتَّمَت الناقةُ: اونٹنی کا عشا کے وقت دوہا جانا صفت عاتِمَة جمع عاتِمات و عواتم عَتَمَ الرجُلُ: تاریکی میں چلنا۔ ـ قِراه: کی مہمانی کے کھانے میں دیر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ماعَتَم ان وقف بنا: اس نے دیر نہیں کی، حمل عليهم فما عَتَم: اس نے ان پر حملہ کیا تو منہ نہیں پھیرا۔ أَعْتَمَ قِرَى الضيف: مہمانی کے کھانے میں دیر کرنا یا دیر ہونا (لازم و متعدی) ـ حاجتَهُ: کی حاجت کو موخر کرنا۔ ـ ت الحاجةُ: حاجت میں تاخیر ہونا یا حاجت کا موخر ہونا۔ ـ الرجلُ: تاریکی میں چلنا یا داخل ہونا۔ ـ ت الناقةُ: اونٹنی کا عشاء کے وقت دوہا جانا۔ ـ الليلُ: رات

کا ایک حصہ گزر جانا۔ اِستَعتَمَ الرجلُ: کو دیر کرانا۔ ـــ النَعَمَ: بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ کے دوہنے میں دیر کرنا۔ ـــ ت الناقۃُ: اونٹنی کا عشاء کے وقت دوہا جانا۔ العَتَمَۃ: دیر کرنا، رات کی پہلی تہائی، رات کی تاریکی، العاتِم م عاتِمہ فا: کہا جاتا ہے جاءَ ناضیفٌ عاتمٌ: ہمارے پاس شام کو دیر سے مہمان آیا۔ النجومُ العاتِمات: وہ ستارے جو غبار کی وجہ سے تاریک ہو جائیں۔ العَتُوم: وہ اونٹنی جو عشاء کے وقت دودھ دے۔ العَتَومَۃ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ المِعْتَام: دیر کرنے والا کہا جاتا ہے۔ رجُلٌ مِعْتَام القِرَیٰ: دیر میں مہمانی کا کھانا پیش کرنے والا۔

۳۔ العَتَم و العُتُم (ن): جنگلی زیتون کا درخت۔ واحد عَتَمۃ و عُتُمَہ۔

⊙ عَتَمَ ـ عَتْمًا: ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متامل ہونا، تامل کرنا، عَتَّمَ ہ: کو تاریک کرنا، کو دھندلا نا کرنا، پر گھٹا کا چھا جانا، (روشنی) گل کرنا، بلیک آوٹ کرنا۔ عَتَمَ (بالخصوص حرف نفی کیساتھ): جیسے لا یعتم ان، لم یعتم ان، ماعتم ان: زیادہ دیر نہیں ہوئی یا ہوگی کہ، جلد ہی تھوڑی دیر میں، أَعْتَمَ: ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متامل ہونا، پس و پیش کرنا، عُتُم: اسم جنس واحد عُتُمۃ: جنگلی زیتون کا درخت۔ عَتمۃ تاریکی، اندھیرا، دھندلکا۔ عَتمۃ رات کی پہلی تہائی۔ عَتَامۃ: ابہام، غیر واضح ہونا، غیر شفاف ہونا جمع عَتَامات: تاریکی، اندھیرا، تَعْتِیم: تاریک کرنا، دھندلا کرنا، گھٹا کا چھا جانا، بلیک آوٹ، مُعْتِم تاریک۔

عتن: عَتَنَ ـِ عَتْنًا ہُ إلى السجن: کو قید خانہ کی جانب زور سے دھکیلنا۔ أَعْتَنَ علی غریمہ قرض دار پر سختی کرنا، تشدد کرنا، کو تکلیف پہنچانا۔ العاتِن و العَتُون جمع عُتُن: قوی، سخت۔ العَتِن من الرجال سخت حملہ کرنے والا۔

عتہ ۱۔ عَتِہَ ـَ و عُتِہَ عَتَہًا و عُتْہًا و عَتَاہًا و عُتَاہًا و عَتَاہَۃً و عَتَاہِیَۃً: کم عقل ہونا، حیران ہونا، الجھاؤ میں پڑنا، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، پاگل ہونا، بوکھلا جانا صفت: مَعْتُوہ و مُعَتَّہ و عَتَاہِیَۃ تَعَتَّہَ جاہل بننا، پاگل بننا۔ ـــ عنہ بے تغافل برتنا۔ العَتَاہَۃ (مص): گمراہی، بے وقوفی۔ و العَتَاہِیَۃ جنون اور دہشت سے پاگل لوگ۔

۲۔ عَتِہَ ـ عَتَہًا و عُتْہًا و عَتَاہًا و عُتَاہًا و عَتَاہَۃً و عَتَاہِیَۃً و عُتِہَ فی العلم: علم میں حریص ہونا، ـــ فلانٌ فی فلانٍ: کو ایذا دینے کا خواہش مند ہونا، صفت عتیہ جمع عُتَہَاء۔

⊙ عُتِہَ عُتْہًا و عَتَہًا و عَتَاہَۃً: بیوقوف ہونا یا ہو جانا۔ فاتر العقل ہونا یا ہو جانا، کم عقل ہونا یا ہو جانا، پاگل ہونا، دیوانہ ہونا یا ہو جانا۔ عُتْہ و عَتَہ: حماقت، بیوقوفی، کم عقلی، بے عقلی، فتور عقل، عَتَاہَۃ: بمعنی عُتْہ و عَتَہ مَعْتُوہ جمع مَعَاتِیہ: احمق، پاگل، جنونی، مختل الحواس، کم عقل، بے عقل، پاگل شخص۔

عتا: عَتَا ـُ عُتُوًّا و عُتِیًّا و عِتِیًّا: تکبر کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ صفت عاتٍ جمع عُتَاۃ و عُتِیّ ـــ عن الادب: ادب کو قبول نہ کرنا۔ العَاتِی: سرکش۔ لیلٌ عاتٍ: بہت اندھیری رات۔ مَلِكٌ عاتٍ: سنگدل، تند خو بادشاہ، ـ العَتِیّ جمع أَعْتَاء سرکش۔

⊙ عتا ـ عُتُوًّا و عُتِیًّا و عِتِیًّا: گستاخ ہونا، سرکش ہونا، نافرمان ہونا، سخت ہونا، بے وقوف ہونا، سخت ظالم ہونا، مضبوط اور قوی ہونا، جنگلی ہونا، سخت و تند ہونا، (طوفان وغیرہ) کا بہت تیز ہونا۔ عُتُو: خود پرستی، دیدہ دلیری، گستاخی، غرور، کبر نخوت، بدتمیزی، خود پسندی، تکبر، اکڑ، اکڑفوں، ہیکڑی، نافرمانی، سرکشی، وحشت، جنگلی ہونا، تند خوئی، سفاکی۔ عُتِیّ: خود پرستی، دیدہ دلیری، تکبر، اکڑنا، اکڑفوں، ہیکڑی، گستاخی، بدتمیزی، جنگلی پن، وحشت، تند خوں، سفاکی۔ بَلَغَ من العمر عتیا بہت بوڑھا ہو جانا۔ عَتِیّ جمع أَعْتَاء: مغرور، گستاخ، بدتمیز، سرکش، نافرمان، بے قابو، خود سر، بے لگام، منہ زور، جنگلی وحشی، عاتٍ جمع عُتَاۃ دیدہ دلیرانہ کا، شوخ چشمی کا، گستاخ، ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا، متکبر، مغرور، سخت، متشدد، سخت ظالم، قوی، جنگلی وحشی، تند، تیز، تیز و تند (طوفان)۔

عتی: عَتِیَ ـَ عَتَیً: تکبر کرنا، حد سے گزرنا۔ تَعَتَّیٰ: حکم نہ ماننا، نافرمانی کرنا۔

عث ۱۔ عَثَّ ـُ عَثًّا ہ پر زور دینا، اصرار کرنا۔

۲۔ عَثَّ ـُ عَثًّا تِ العُثَّۃُ الصوف کیڑے کا اون کو چاٹ لینا۔ ـــ ت الحیّۃُ فلانًا کو سانپ کا ڈسنا، سانپ کے پھونکنے سے کے بال گر جانا۔ اِعْتَثَّ ہُ عِرقُ سُوءٍ: کو نیکی کرنے سے روک دینا۔ العِثّ (ح) عِثَاث کا مفرد، ایک قسم کے سانپ جو قحط سالی میں ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔ العَثَّاء (ح): سانپ۔ العُثُّ جمع عُثّ و عُثَث (ح) اون چاٹنے والا کیڑا۔

۳۔ عَثَّتْ تعثیثًا و عاثَّ عِثَاثًا و مُعَاثَّۃً فی غِنائہ سر نکالنا۔

۴۔ العِثَّۃ من النساء جمع عِثَاث دبلی پتلی عورت، گمنام حقیر عورت، العُثَّۃ: بڑھیا، بیوقوف عورت، بدزبان گمنام عورت۔

عُث: (اسم جنس واحد عُثَّہ) جمع عُثَث: پروانہ، پتنگا، کیڑا، لاروا۔ مَعْثُوث: کرم خوردہ، جسے کیڑا لگا ہوا ہو۔

عثر: ۱۔ عَثَرَ ـُ و عَثِرَ ـَ و عَثُرَ ـُ عَثْرًا و عَثِیرًا و عِثَارًا الفرسُ: گھوڑے کا پھسلنا اور اوندھا ہونا۔ ـــ العِرقُ: رگ کا حرکت کرنا، کہا جاتا ہے: عَثَرَ بھم الزمانُ: زمانہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ عثر جَدُّہُ: اس کا دادا ہلاک ہو گیا۔ عَثَّرَہُ: کو پھسلانا۔ أَعْثَرَہُ: کو پھسلانا۔ ـــ بہ عند الامیر حاکم کے پاس کسی پر عیب لگانا یا اس کو مطعون کرنا۔ تَعَثَّرَ الرجلُ و الفرسُ و الجدُّ ـ بمعنی عَثَرَ ـ لِسانُہُ: زبان کا لڑکھڑانا۔ انسان کا ہکلانا۔ العَثْر جمع عَثَرات: لغزش، پھسلاہٹ، جہاد، لڑائی، گرنا۔ العَاثُور جمع عَوَاثِیر و عَوَاثِر: شیر کا شکار کرنے کے لئے کھودا ہوا گڑھا، کنواں۔ ـــ و العِثَار: پھسلن، بدی، مصیبت، ہلاکت کی جگہ، جب کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو کہا جاتا ہے۔ قد وقع فی عاثور شرّ: یعنی وہ مصیبت میں پڑ گیا۔ العَثُور: بہت گرنے والا، بہت پھسلنے والا۔

۲۔ عَثَرَ ـُ عَثْرًا و عُثُورًا علی السرّ وغیرہ: راز وغیرہ سے واقف ہونا۔ أَعْثَرَہُ علی السر وغیرہ: کو راز وغیرہ سے مطلع کرنا۔ ـــ ہُ علی اصحابہ: کو اپنے ساتھیوں کا پتہ بتانا۔ العِثْیَر و العَثْیَر و العَیْثَر: مخفی نشان۔

۳۔ العُثْر (ح) عقاب۔ و العَثَر جھوٹ۔ العِثْیَر مٹی، غبار۔

⊙ عَثَرَ ـُ عَثْرًا و عثیرًا و عِثَارًا: ٹھوکر کھانا ٹھوکر کھا کر گرنا، عَثَّرَہُ: کو ٹھوکر لگانا، کو گرانا، کو ڈگمگا کر گرانا۔ عَثَرَ ـُ عُثُورًا ب / علی: سے مڈبھیڑ ہونا، سوجھنا، ہاتھ لگنا، کو اتفاق سے پالینا، کو پانا، کا ہاتھ لگنا، کو دریافت، کا انکشاف کرنا، کا پتہ لگانا، عَثَّرہُ: کو ٹھوکر لگا کر گرانا، کو گرانا، کو ڈگمگا کر گرانا، أَعْثَرَ بمعنی عَثَّرَ نیز أَعْثَرَہُ علی: کو سے آگاہ کرنا، کو کا پتہ دینا، کو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرنا۔ تَعَثَّرَ: ٹھوکر کھا کر گرنا، ہکلانا، رک رک کر کہنا۔ تَعَثَّرَ باذیال الخیبۃ ناکامی سے دوچار ہونا، حجر عَثْرۃ: رکاوٹ۔ وقف عثرۃ فی سبیلہ کے لئے رکاوٹ ہونا، کا راستہ روکنا۔ عاثور جمع عَوَاثِیر گڑھا، مشکل۔ مُتَعَثِّر: ٹھوکر کھانے والا، گرنے والا (غیر ملکی زبان) ٹوٹی پھوٹی بولنے والا، ٹوٹی پھوٹی (غیر ملکی زبان)

عثق: العُثقُول (ز): کیلوں کا گچھا۔

عثك: ۱۔ عَثْكَلَ الهودجَ: ہودہ کو جھالر سے مزین کرنا۔ ۔ العذقُ: بہت گچھے دار ہونا۔ العُثكول و العثكال جمع عَثَاكِيل (ر) کھجوروں کا گچھا۔ العُثْكُولَة جمع عَثَاكِيل: کھجوروں کا گچھا، وہ جھالر جو ہودج میں لٹکائے جائیں۔

۲۔ عَثْكَلَ الرجُلُ: سست رفتار سے دوڑنا۔

عثل: عَثَلَ ـُ عُثلاً يدُه: ہاتھ کا ٹوٹنے کے بعد ٹیڑھا جڑنا۔ عَثِلَ ـَ عَثَلاً الشيئُ: بکثرت ہونا، بہت موٹا ہونا صفت: عَثِل و عَثَل العَثُول جمع عُثُل: احمق، بےوقوف۔ العِثوَل: جس کے سر اور جسم پر بہت بال ہوں۔ ۔ من الرجال: اجڈ، اکھڑ۔ العِثْيَل (ح): زبجو۔

عثم: ۱۔ عَثَمَ ـُ عَثْمًا العظمُ المكسورُ: ٹوٹی ہوئی ہڈی کا ٹیڑھا جڑنا۔ ۔ العظمَ: ہڈی کو اس کی صحیح جگہ نہ جوڑنا۔

۲۔ إعْتَثَمَ به: سے مدد طلب کرنا، نفع اٹھانا۔ ۔ بيده: ہاتھ کو جھکانا۔

۳۔ العَيْثُوم (ح) بجو (ح): ہاتھی (مذکر و مونث) العَيْثَمِيّ (ح): گورخر۔ العُثْمان (ح): حُباری کا بچہ ۔ (ح): سانپ۔ (ح): سانپ کا بچہ۔

عثن: ۱۔ عَثَنَ ـَ عَثَنًا و عُثَانًا و عُثُونًا في الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔

۲۔ عَثَنَ ـُ عَثْنًا و عُثَانًا و عُثُونًا الثوبَ: کپڑے کو دھونی دینا۔ ۔ ت النارُ: آگ سے دھواں نکلنا۔ عَثِنَ ـَ عَثَنًا الثوبُ: کپڑے کا خوشبودار ہونا۔ عَثَّنَ الثوبَ: کپڑے کو دھونی دینا۔ ۔ ت النارُ: آگ سے دھواں نکلنا، کہا جاتا ہے۔ عَثَّنَ على القوم: اس نے لوگوں میں فساد پیدا کر دیا۔ تَعَثَّنَ: دھونی دیا جانا۔ العُثَان (مص): جمع عَوَاثِن و العَثَن: دھواں، غبار العَثَن و المَعْثُون: وہ کھانا جو دھواں لگنے سے خراب ہو گیا ہو

۳۔ العِثْنُ: ناظم مالیات، روئی (رنگی ہوئی)۔ العُثْنُون ج عَثَانِين: داڑھی۔ ۔ من المطر او الريح: بارش یا ہوا کی ابتداء۔ المُعَثَّن (مفع): بھاری داڑھی والا۔

عثا: عَثَا ـُ عُثُوًّا و عَثي ـِ وعَثِيَ ـَ عُثِيًّا و عِثِيًّا و عَثَيانًا: فساد، کفر یا غرور میں مبالغہ کرنا، صفت عاثٍ۔ العَثْوَة جمع عِثي: دراززلف۔ الأعْثَى: سیاہی مائل رنگ والا احمق، بہت بالوں والا۔

○ عَثَا ـُ عُثُوًّا و عَثي ـِ عُثِيًّا و عِثِيًّا: طیش کا رویہ اختیار کرنا، مظاہرہ کرنا، نقصان کرنا، مصیبت یا نقصان کا باعث ہونا۔

عَجَّ ـِ عَجًّا و عَجِيجًا چلانا، آواز بلند کرنا۔ الناقةَ: اونٹنی کو عاج عاج کہہ کر ڈانٹنا۔ العَجَاج (واحد عَجَاجَة) بےوقوف۔ ادنی لوگ۔ العَجَاجَة بمعنی عجاج نیز بہت سارے بڑے اونٹ کہا جاتا ہے: لَبَّدَ عَجَاجَتَهُ: اس نے وہ کام جس میں مشغول تھا کرنا بند کرنا۔ لَفَّ عَجاجتهُ عليهم: ان پر حملہ کرنا۔ العَجَّاج: چیخنے والا۔

۲۔ عَجَّ ـِ عَجًّا عجيجًا ... ت الريحُ: ہوا کا تند و تیز ہونا، اور غبار اڑا دینا۔ کہا جاتا ہے له رائحة تعجّ في المسجد: اس کی بو مسجد میں بھڑک اٹھتی ہے۔ ۔ عَجَّجَ الغبارَ: گرد و غبار اڑانا۔ ۔ البيتَ من الدخان: گھر کو دھوئیں سے بھر دینا۔ تَعَجَّجَ: دھوئیں سے بھر جانا۔ أعَجَّ ت الريحُ: ہوا کا تیز و تند ہونا اور گرد و غبار اڑانا۔ العَجَاج (واحد عَجَاجَة): گرد و غبار، دھواں۔ العَجَّاج: غبار اڑانے والا۔ يومٌ عَجَّاجٌ: گرد و غبار والا دن ريحٌ مَعَاجِيج: گرد و غبار اڑانے والی ہوا۔

۳۔ العَجَّة (ط): ایک قسم کا کھانا جو انڈا آٹا گھی یا تیل ملا کر پکایا جاتا ہے۔

۴۔ عَجْعَجَ عَجْعَجَةً: بہت چیخنا، چلانا۔ العَجْعَاج: بہت چیخنے والا۔ العَجْعَجَة (مص) جمع عَجَاعِج: چیخ۔

۵۔ العَجْعَاج من الخيل: اصیل گھوڑا، یکسالہ گھوڑا۔

○ عَجَّ ـِ عَجًّا و عَجِيجًا: چیخنا، چلانا، چلا کر کہنا، سخت تیز ہونا، نوروں کا ہونا، گرجنا، دھاڑنا، ۔ الي: کو مدد کیلئے پکارنا۔ ۔ ب: گرج کر یا کڑک کر کچھ کہنا، کی گونج پیدا کرنا، سے بھرا ہونا، میں بہت پڑا ہونا، سے بھرپور ہونا۔ عَجَّجَ الغبار: گرد و غبار اڑانا۔ عَجّ: چلانا، چیخنا، چلا کر پکارنا، شور و غوغا، دہائی، گرج، دھاڑ۔ عُجَّة: آملیٹ (Omelet) عجيج: چیخنا، چلانا، چلا کر کہنا، گرج، دھاڑ عَجَاج: چکر کھاتا گرد و غبار، دھواں۔ عَجَاجَة جمع عَجَاجات: گرد و غبار کا بادل، دھوئیں کی بڑی لہر۔ عَجَّاج: شور مچانے والا، چیخنے والا، گرجدار، کڑک دار، اکھڑ، تند، ادھم مچانے والا، گلا پھاڑ کر کہنے والا، پرشور انداز سے اصرار کرنے والا، بہت زوردار، سخت تیز (سمندر بالخصوص)

عجب: ۱۔ عَجِبَ ـَ عَجَبًا مِن الامر وله: پر تعجب کرنا۔ ۔ اِلَيه: کو پسند کرنا۔ عَجَّبَ و أعْجَبَ هُ: کو تعجب میں ڈالنا۔ اُعْجِبَ بالشئ: کسی بات کا کسی کو اچھا لگنا اور اس پر تعجب کرنا۔ تَعَجَّبَ منهُ: پر تعجب کرنا، کہا جاتا ہے۔ تَعَجَّبَني فلانٌ: فلاں نے مجھے فریفتہ کر دیا اور فتنے میں ڈال دیا۔ إسْتَعْجَبَ منه: تعجب کرنا۔ العَجَب: پیش آنے والی چیز سے انکار

العَجَب جمع أعْجَاب: حیرت، حیرانی، تعجب، اچنبھا، سخت تعجب، ۔ من الله: رضا۔ العُجَاب: تعجب کی حد سے بڑھ جانا، کہا جاتا ہے۔ عَجَبٌ عُجَابٌ و عَجِيبٌ: سخت تعجب، اچنبھا۔ و العُجَّاب و العجيب: حیرت انگیز، غیر معمولی۔ العَجْبَاء: عورت جس کے حسن یا بدصورتی پر تعجب کیا جاتا ہو۔ حیرت انگیز طور پر حسین عورت، حیرت انگیز طور پر بدصورت عورت۔ العَجِيبَة جمع عَجَائب و الأعْجُوبَة جمع أعاجيب: جس چیز پر تعجب کیا جائے۔ اعجوبہ، کرامات، حیرت انگیز (چیز وغیرہ) رَجُلٌ تِعْجَابَةٌ: عجیب باتوں والا۔ التَعَاجِيب: عجائبات (اس کا واحد نہیں ہوتا) التَعَجُّب: حیرت، حیرانی، تعجب، اچنبھا، جن باتوں کے اسباب مخفی ہوں ان کے بارے میں نفسیاتی تاثر۔

۲۔ أُعْجِبَ بنفسه: غرور و تکبر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ما أعْجَبَهُ برأيه: وہ اپنی رائے پر کس قدر مغرور ہے۔ (فعل تعجب مجہول سے بنائے جانے کی وجہ سے شاذ ہے) العُجْب: فخر، تکبر، خود بینی۔

۳۔ العَجْب جمع عُجُوب: ہر چیز کا پچھلا حصہ، دم کی جڑ۔ العَجْبَاء من النياق: موٹی اونٹنی۔

○ عَجِبَ من / ل: پر تعجب کرنا۔ سے حیرت زدہ ہونا عَجَّبَ هُ: کو حیران کرنا، ششدر کرنا، اچنبھے میں ڈالنا، متحیر کرنا، کو بھونچکا کر دینا۔ أعْجَبَ بمعنی عَجَّبَ نیز ـ ه: کو پسند آنا، کو بہت اچھا لگنا، کو خوش کرنا، کو محظوظ کرنا۔ أُعْجِبَ به: کو سراہنا، پسند کرنا، بنظر استحسان دیکھنا، کے بارے میں اونچی رائے رکھنا، پر فخر کرنا، کا گھمنڈ کرنا، پر اترانا۔ أُعْجِبَ بنفسه: مغرور ہونا، متکبر ہونا، خود پسند ہونا، خود بین خود نما، خود پسند یا گھمنڈی ہونا۔ عُجْب ب: میں، کا غرور، تکبر، نخوت، پر فخر و ناز، فخر و مباہات، جھوٹا ناز، نیچا غرور، گمان، تکبر، خود پسندی، عَجَب: حیرت، حیرانی، استعجاب: جمع أعْجَاب: حیرت، حیرانی، تعجب، اعجوبہ، حیرت انگیز شے یا بات۔ عَجَبًا: کتنا عجیب، انوکھا، نرالا، عجیب سا، حیران کن، حیرت انگیز، غیر معمولی یا لَلْعَجَب: اوہ، کتنا حیرت انگیز، لا عَجَبَ: کوئی حیرت کی بات نہیں۔ امرٌ عَجَب: حیرت انگیز، عجیب مزے کی بات عَجَبٌ عُجَاب: انتہائی حیرت انگیز واقعہ حیرتوں کی حیرت، عُجَاب: حیرت انگیز، معجزنما، عجیب عَجِيب: حیرت انگیز، معجز نما، قابل تعریف، قابل ستائش، بہت عمدہ، بہت ہی اچھا، غیر معمولی، عجیب، انوکھا، نرالا، عجیب سا۔ عَجِيبَة: حیرت انگیز

چیز، ان سنی چیز، ان دیکھی چیز، حیرت انگیز بات یا
شے۔ معجزہ: حیرت انگیز واقعہ۔ جمع عجائب:
غیر معمولی اشیاء، نوادر، عجیب سی باتیں۔ من عجائب
الأمر ان: اس معاملہ کے بارے میں غیر معمولی بات یہ
ہے کہ۔ أَعْجَب: زیادہ حیرت انگیز، زیادہ غیر معمولی،
أُعْجُوبة: حیرت انگیز چیز، ان سنی، ان دیکھی چیز،
معجزہ، حیرت، حیرانی۔ استعجاب: حیرت، حیرانی،
اچنبھا، سخت تعجب۔ مُعْجِب: باعث تحسین قابل
تعریف، قابل ستائش۔ مُعْجَب ب: کو سراہنے والا،
پسند کرنے والا، کو بنظر استحسان دیکھنے والا، پر فخر کرنے
والا، کا گھمنڈ کرنے والا۔ مُعْجَبٌ بنفسه: مغرور،
خود بین، خود پسند، مُتَعَجِّب: متحیر، حیران، ششدر۔

عجد: العَجد و العُجد: انگور کا دانہ خشک انگور کا دانہ۔

عجر: ۱- عَجَرَ ـِ عَجْرًا عُنُقَهُ: کی گردن موڑ دینا۔
تَعَجَّرَ بطنُهُ: موٹا ہونے کی وجہ سے پیٹ کا سلوٹ
دار ہونا۔ إِعْتَجَرَ: عمامہ لپیٹنا۔ ــــ ت المرأةُ:
اوڑھنی ڈالنا۔ الأَعْجَر م عَجْراء جمع عُجْر:
کبڑا۔ المِعْجَر: عورت کا سر پر باندھنے کا کپڑا، سر
پر لپیٹے بغیر عمامہ۔ المُعْجَر: بندھا ہوا عمامہ۔

۲- عَجَرَ ـِ عَجْرًا هُ بالعصا: کو لاٹھی مار کر بدھی ڈال
دینا۔ عَجِرَ ـَ عَجَرًا: بڑے پیٹ کا ہونا صفت
أَعْجَر ۔ الفرسُ: گھوڑے کا سخت ہونا۔ العَجَر
(مص): ابھار، حجم۔ العُجْرة جمع عُجَر: دھاگے،
لاٹھی اور جسم کی رگوں وغیرہ کی گرہ، کہا جاتا ہے۔ ذکر
عُجَرَهُ و بُجَرَهُ: اس نے اس کے سب عیب یا غم
بیان کر دیے۔ یعنی سب ظاہر و پوشیدہ باتیں کہہ دیں۔
العُجُور (ن): ایک قسم کا خربوزہ۔ الأَعْجَرم
عَجْراء: جمع عُجْر: بڑے جسم والا، بہت بھرا ہوا۔
العَجْراء: گرہوں والی لاٹھی۔

۳- عَجَرَ ـِ عَجْرًا عليه بالسيف: پر تلوار سے حملہ
کرنا۔ ــــ القاضي عليه: کو قاضی کا تصرف سے
روک دینا۔

۴- عَجَرَ ـِ عَجْرًا الشيءَ: چیز کو پھاڑ دینا۔

۵- عَجَرَ ـِ عَجْرًا و عَجَرانًا و عاجرًا: خوف وغیرہ کی
وجہ سے جلدی جلدی ... رجانا۔

۶- الأَعْجَر من الثمار: کچا پھل (عام زبان میں)
العَجّار: گوندھے ہوئے آٹے کا پیڑہ کھانے والا۔
العَجاجير: گندھے ہوئے آٹے کے پیڑے۔
العُجْرُور (عَجاجير کا واحد) جس کا معنی ہے ہوا
کی وجہ سے ریت پر پڑنے والی دھاریاں۔
... عَجْرَدَهُ: ... کرنا۔ تَعَجْرَد: ... ہونا صفت
مُعَجْرِد

۸- تَعَجْرَفَ: تکبر کرنا۔ سرکشی کرنا۔ العَجْرَفة: تکبر، کلام
میں اکھڑ پن، کہا جاتا ہے۔ في الجمل عَجْرَفة
و عَجْرَفِيَّة في المشي: اونٹ چلنے میں بے پروا
ہے۔ عَجارِفُ و عَجاريفُ الدهر: زمانہ کے
حوادث۔ ــــ المطر: بارش کی شدت۔

۹- عَجْرَمَ الرجلُ: تیز چلنا، جلدی کرنا۔ العَجْرَم
والعُجْرُم و العُجارم: سخت آدمی۔

۱۰- العَجْرَم (ن): ایک پودا، جس میں کچھ کانٹے بھی
ہوتے ہیں، پتے بیضوی شکل کے اور چھوٹے ہوتے
ہیں پھل سیاہ رنگ کا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ پودا بحر ابیض
متوسط کے کئی ممالک میں اگتا ہے۔

عُجَر: ابھار، ابھرا ہوا حصہ۔ عُجَر: ہرا، کچا۔ عُجْرة
جمع عُجَر: گرہ، گانٹھ، گومڑی، کوہان، کب، کوبڑ،
ابھار۔ عُجَرُهُ و بُجَرُهُ: کی ظاہر و پوشیدہ خامیاں،
اس کے تمام گناہ و عیوب۔ تَعَجْرُف: دیدہ دلیر،
خود پسند، مغرور، یا متکبر ہونا۔ عَجْرَفة: دیدہ دلیری،
خود پسندی، غرور، تکبر۔

عجز: ۱- عَجَزَ ـُ عُجُوزًا ت المرأةُ: عورت کا بوڑھی
ہونا۔ ــــ و ــــ و عَجِزَ ـَ و عَجْزًا و عُجُوزًا و
عَجَزانًا مَعْجَزًا و مَعْجِزًا و مَعْجَزَةً و
مَعْجِزَةً: باعزم، مستقل مزاج، پکا وغیرہ نہ ہونا۔ عن
کذا: پر قادر نہ ہونا، کی طاقت نہ رکھنا، سے عاجز ہونا،
کہا جاتا ہے، عجز فلانٌ عن العمل: فلاں شخص
بوڑھا ہو گیا اور کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صفت
عاجز جمع عَواجز۔ عَجُزَ ـُ عُجُوزًا ت المرأةُ:
عورت کا بوڑھی ہو جانا۔ عَجَّزَهُ: کو عاجز کر دینا، کو عجز
کی طرف منسوب کرنا کو روک دینا۔ ــــ تِ المرأةُ:
عورت کا بوڑھا ہو جانا۔ عاجَزَ مُعاجَزَةً: سے آگے
بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ــــ الرجلُ: عاجز ہو جانا۔
أَعْجَزَهُ: کو عاجز کرنا یا عاجز پانا۔ ــــ هُ الشيءُ: چیز
کے قبضہ سے نکل جانا اور اسے حاصل کرنے کی طاقت نہ
رکھنا۔ تَعاجَزَ: عجز کا دعوی کرنا۔ إِسْتَعْجَزَهُ: کو عاجز
پانا۔ العاجز جمع عَواجز (فا)۔ امرأةٌ عاجزٌ:
عاجز عورت۔ ثوبٌ عاجزٌ: تنگ جامہ۔ رَجُلٌ
عَجْزٌ و عَجِزٌ: مرد عاجز۔ العَجُوزُ جمع عُجُز
و عَجائِز: بڑھیا، شراب۔ رجلٌ عَجُوزٌ: عاجز مرد۔
المُعْجِزة جمع مُعْجِزات: وہ خارق عادت بات جسے
انسان نہ کر سکے۔ المِعْجاز: ہمیشہ عاجز رہنے والا۔

۲- أَعْجَزَ في الكلام: مقصود کو بلیغ ترین اسلوب سے ادا
کرنا۔

۳- تَعَجَّزَ البعيرَ: اونٹ کے چوتڑ پر سوار ہونا۔ العَجْز
والعُجْزُ والعِجْزُ والعَجُزُ والعَجِزُ: جمع أَعْجاز:
چیز یا جسم کا پچھلا حصہ، سرین کہا جاتا ہے۔ رکب أعجاز
الابل: وہ ذلت اور مصیبت میں مبتلا ہوا۔ عَجُزُ بيت
الشعر: مصرع ثانی۔ أَعْجازُ النخل: کھجور کے
درخت کی جڑیں۔ العُجْزة والعِجْزة: کہتے ہیں۔
هو عُجْزةُ أبيه و عِجْزَتُهُ: وہ اپنے باپ کا آخری
لڑکا ہے۔ (سب کے ساتھ مفرد لفظ سے آتا ہے)
کہتے ہیں۔ وُلِدَ لِعِجْزَةٍ: وہ والدین کے بوڑھا
ہونے پر پیدا ہوا۔ العِجاز و العِجازة: وہ پٹھا جس
سے تلوار کے دستہ کو باندھتے ہیں۔ الأَعْجَز: بڑے
سرین والا۔ كِيسٌ أَعْجَز: بھری ہوئی تھیلی۔ العَجْزاء
اعجز کا مونث۔ ایام العجوز: جاڑے کے آخری
سات دن، سخت سردی والے جس کے چار دن آخری
فروری میں اور تین دن مارچ میں ہوتے ہیں عوام ان کو
مُسْتَقْرِضات کہتے ہیں ان دنوں کے نام یہ ہیں۔
صِنّ، صِنَبْر، وَبْر، آمِر، مُؤتَمِر، مُعَلِّل مُطْفِئ
الجَمْر یا مُكْفِئ الظعن۔

۴- العَجْز جمع أَعْجاز: تلوار۔ نَباتُ العَجْز: تیر۔
العَجْزاء: ریت کا اونچا ٹیلہ۔ العَجُوز: مصیبت،
کشتی، راستہ، ہانڈی، کمان، آگ، موت، (ن) کھجور
کا درخت۔ (ح): اونٹنی۔ المِعْجاز: راستہ۔
المَعْجُوز: جس سے سوال میں اصرار کیا جائے۔

ماعجز عن أن: وہ میں ناکام نہیں ہوا۔ أَعْجَزَهُ عن
الدبّ والمشي: نے کی ہر نقل و حرکت کو مفلوج کر
دیا۔ أَعْجَزَهُ عن الفهم: کے لیے فہم و ادراک نا
ممکن بنا دیا۔ إِسْتَعْجَزَهُ عن: کو سے عاجز سمجھنا۔
عَجْزٌ عن: (کیلئے، کے کرنے میں) کمزوری،
(سے) معذوری، نالائقی، ناکامی، بے بسی،
عُجُوز: بڑھاپا۔ عَجُوز جمع عَجائِز و عُجُز:
بڑھیا، بوڑھا، عمر رسیدہ۔ عَجِيزة: چوتڑ، سرین۔
إِعْجاز: انفرادیت، بے مثلی، قرآن کی حیرت انگیز
قدرت، عاجِز: کمزور، لاغر، بے بس، نامرد، نالائق،
ــــ عن: کے نا قابل۔ جمع عَجَزة: جسمانی طور پر
کمزور، معذور، زار و نزار۔ (لوگ)

عجس: ۱- عَجَسَ ـِ عَجْسًا هُ عن حاجته: کو اس کی
حاجت سے باز رکھنا۔ تَعَجَّسَ: پیچھے ہٹنا۔ ــــ
بالقوم: کو دیر کرانا۔ ــــ هُ: کی رائے کو کمزور سمجھنا۔ ــــ هُ
عن حاجته: کو اس کی ضرورت سے روکنا۔

۲- عَجَسَ ـِ عَجْسًا على الشيء: کو مضبوطی سے پکڑنا،
پر گرفت مضبوط کرنا۔ العُجْس و العَجْس

والعجس: کمان کا قبضہ۔ العُجْسَة: رات کی تاریکی، رات کی ایک گھڑی۔

۳۔ تعَجَّسَ الأمرَ: کے درپے ہونا، کا پیچھا کرنا۔ العَجُوس: بوجھل بادل، مسلسل بارش۔

عجف: ۱۔ عَجَفَ ـِ عُجُوفًا: کھانا چھوڑ دینا۔ ـــ ہ عَجْفًا و عُجُوفًا نفسَهُ عن الطعام: بھوک کے باوجود دوسروں کو کھلانے کے خاطر بھوکا رہنا۔ ـــ ـُ عَجْفًا و عُجُوفًا عن فلان: سے دور رہنا، سے کنارہ کش ہونا، سے نفرت کرنا۔ عَجَّفَ نفسهٗ عن الطعام: کھانا چھوڑ دینا۔ ـــ الرجلُ: سیر ہو کر نہ کھانا۔

۲۔ عَجَفَ ـِ عَجْفًا و عُجُوفًا و عَجَّفَ نفسَهٗ علی المریض: صبر کے ساتھ مریض کی تیمارداری کرنا۔ ـــ نفسَهٗ علی فلان: کی گمراہی کو برداشت کرنا۔ أعْجَفَ بنفسه علی المریض: صبر کے ساتھ مریض کی تیمارداری کرنا۔

۳۔ عَجَفَ ـِ عَجْفًا و عُجُوفًا الدابَّةَ: جانور کو لاغر کرنا۔ عَجِفَ ـَ و عَجُفَ ـُ عَجَفًا: کمزور ہونا، دبلا ہونا، صفت عَجِف و أعْجَف مونث عَجِف و عَجْفاء جمع عِجَاف ـــ ت البلادُ: ملک میں بارش نہ ہونا، کہا جاتا ہے۔ نزلوا في بلاد عِجَافٍ: وہ غیر بارش شدہ شہروں میں آئے۔ أعْجَفَ القومُ: دبلے جانوروں کا مالک ہونا۔ الدابَّةَ: جانور کو لاغر کرنا۔ العِجَاف: عجفاء کی جمع (جو قیاس کے خلاف ہے) العَجِيف جمع عَجْفَی: لاغر، کمزور، دبلا۔ التعَجُّف: تنگ حالت۔

۴۔ العجاف: اندرائن، زمانہ۔

○ عَجْعَجَ: چیخنا، چلانا، ڈکارنا، گرجنا، دھاڑنا، عَجْعَجَة: گرج، دھاڑ، چیخ و پکار، شوروغوغا۔

أعْجَفُ م عَجْفاء جمع عِجَاف: پتلا دبلا، چھریرا، پتلا اور لمبا، نازک، نازک اندام، لاغر، گھلا ہوا۔

عجل: ۱۔ عَجِلَ ـَ عَجَلًا و عَجَلَةً: جلدی کرنا، کہا جاتا ہے۔ عَجِلَ به الیه: کو کوئی چیز تیز رفتاری سے بھیجنا۔ ـ الامرَ: کو سست رفتار پا کر کوئی اور کام کرنا۔ عَجَّلَ: جلدی کرنا۔ ـ ہٗ: پر سبقت کرنا، کو برانگیختہ کرنا۔ ـــ له من الثمن کذا: کو کچھ رقم پیش کرنا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو جلدی میں پکانا۔ عَاجَلَ مُعَاجَلَةً ہٗ بذنبه: کا جلدی مواخذہ کرنا اور سزا دینا۔ ـــ ہٗ بضربه: پر مارنے میں سبقت کرنا۔ أعْجَلَ ہٗ: پر سبقت کرنا، کو برانگیختہ کرنا۔ ـــ الشیءَ: کو جلدی میں کھانا۔ ـــ تِ الناقةُ: اونٹنی کا قبل از وقت بچہ جننا۔ تعَجَّلَ فی الامر: میں جلدی کرنا۔ ـــ الامرَ: کو جلدی میں کرنا۔ اِسْتَعْجَلَ ہٗ: کو جلدی کرنے پر اکسانا اور اس کا حکم دینا، پر سبقت کر کے آگے بڑھنا۔ العِجْلة جمع عِجَل و عِجَال: رہٹ۔ العُجُل و العُجْلَة و العُجَالَة: جو کام جلدی کیا جائے۔ جو کھانا موجود ہو، ماحضر، مہمان کے لئے جو کچھ جلدی تیار کیا جائے۔ العَجَلَة جمع عَجَل و عِجَال و أعْجَال: جلدی، ہلکاپن، سامان لادنے کی گاڑی۔ رہٹ۔ العَاجِل و العَجِل و العَجُل: جلد باز۔ العَاجِلَة: عاجل کا مونث۔ دنیا۔ العَجْلان م عَجْلَی جمع عَجَالَی و عُجَالَی و عِجَال و العجیل جمع عِجال: جلدی کرنے والا۔ العَجُول: موت، غمزدہ عورت، بچہ کو کھو دینے والی عورت۔ ـــ جمع عُجُل: جلدی کرنے والا ـــ و العَجَّال: بہت جلدی کرنے والا۔ العُجَيْلَة و العُجَيْلَی و العُجَّيْلَی: تیز چال، کہتے ہیں۔ سار العُجَيْلَی: وہ تیز چال چلا۔ اس کی ضد ھوینا ہے۔ المِعْجَال جمع مَعَاجِيل: برانگیختہ کرنے والا۔ سبقت لیجانے والا۔ امرأةٌ مِعْجَال: قبل از وقت بچہ جننے والی عورت۔ مَعَاجِيلُ الطُرق: مختصر راستے۔ المِعْجَل: رفتار ناپنے کا آلہ۔ طريقٌ مُسْتَعْجِلَةٌ: مختصر قریبی راستہ کہتے ہیں۔ اخذ مُسْتَعْجِلَةً من الطريق: اس نے مختصر راستہ اختیار کیا۔ هذه مُسْتَعْجِلَاتُ الطريق: یہ مختصر راستے ہیں۔ یہ قریبی راستے ہیں۔

۲۔ العِجْل جمع عُجُول و عِجْلَة و عِجَال (ح): بچھڑا۔ العِجْلَة جمع عِجَل و عِجَال (ح) بچھڑی، بچھیا۔ العَجَلَة جمع عَجَل و عِجَال و أعْجَال: گارا، کیچڑ۔ العِجَّوْل جمع عَجَاجِيل: بچھڑا۔

○ عَجِلَ ـَ عَجَلًا و عَجَلَةً الی: پر تیزی سے پہنچنا۔ عَجِلَ و عَجَّلَ: جلدی کرنا، جلدی میں ہونا۔ عَجَّلَ ب: کو جلدی سے کرنا۔ ـــ ب ل: کے پاس کوئی چیز جلدی سے لانا، لیجانا۔ عَجَّلَ ہٗ: کو جلدی سے بھیجنا، کو دھکیلنا، پر زور دینا، کو مجبور کرنا، اکسانا۔ ـــ ھ: کو جلدی کرنا، تیز تیز کرنا، تیز کرنا، تیز چلانا۔ عَجَّلَ: پیشگی ادائیگی کرنا۔ ـــ ل ھ: کی کیلئے نقد ادائیگی کرنا۔ عَاجَلَ ھ/ ہٗ: کو جالینے کے لئے جلدی کرنا۔ کے پیچھے دوڑنا، کو جالینا۔ ـــ ہٗ: کو موت کا آلینا۔ ـــ ھ/ ہٗ: پر تیزی سے آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، اچانک حملہ کرنا۔ ـــ ہ ب: کسی کام میں سے قبل پیش بندی کرنا۔ أعْجَلَ ہٗ: کو جلدی کرانا، بھیجنا، پر زور دینا، کو مجبور کرنا۔ اعجله الوقتُ عـــن: اس کے کرنے کے لئے وقت بہت تھوڑا تھا۔ تعَجَّلَ: جلدی کرنا۔ ـــ ہ الی: کو پر اکسانا، برانگیختہ کرنا۔ ـــ ہ/ھ: کی پیش بندی کرنا۔ ـــ ھ: سے آگے ہونا (ھ' توقعات سے) پہلے ہونا۔ ـــ (ھ رقم) فوراً وصول کرنا۔ بلا تاخیر وصول کرنا۔ ـــ: نقد وصول کرنا۔ تعَجُّلَةُ الجوابَ: سے فوری جواب طلب کرنا۔ اِسْتَعْجَلَ: جلدی کرنا۔ ـــ ھ: کو جلد کرنے کا خواہشمند ہونا۔ ـــ ہٗ: کو جلدی کرانا، بھیجنا، پر زور دینا کو مجبور کرنا۔ ـــ ھ: کو جلدی کرنا، تیز تر کرنا۔ عِجلُ البحر: سیل، دریائی بچھڑا۔ عَجَل: جلدی، پھرتی، علی عَجَل: جلدی سے، بہ سرعت، عَجَلَة جمع عَجَلات: پہیہ، بائیسکل عَجَلَةٌ سیارة: موٹر سائیکل عَجَلَةُ القیاد: سٹیرنگ وہیل Steering wheel عَجَلَةٌ ناريَّةٌ: موٹر سائیکل۔ عُجَالة: مختصر بیان، جلدی میں مرتب کی ہوئی رپورٹ، علی وجه الاستعجال: تیز رفتاری سے، تیزی سے استعجالی: جلد کیا ہوا، عارضی وقتی، استعجال: جلد بازی، جلدی۔ عَاجِل: دنیوی، دنیاوی، زمانی، فوری عاجلاً: جلد، فوراً، ابھی حکمٌ عاجلٌ: سرسری فیصلہ، حکم، عاجلاً او آجلاً: کبھی نہ کبھی، دیر سویر، جلد یا بدیر۔ فی العاجل و الآجل: اب اور آئندہ فی عاجله او اجله: کبھی نہ کبھی دیر سویر جلد یا بدیر۔ فی القریب العاجل: فوری مستقبل میں، مستقبل قریب میں۔ عَاجِلَة: تیز رو ٹرین، ایکسپریس گاڑی۔ العَاجِلَة: اس دنیا کی زندگی۔ مُعَجَّل: فوری، اہم، ضروری، قبل از وقت۔ مُعَجَّل الرسم: جس کا محصول ڈاک پیشگی ادا کر دیا گیا ہو۔ Prepaid, Postpaid حکم بالنفاذ المعجل: سرسری حکم، فیصلہ، جو سرسری کارروائی کے بعد صادر کیا گیا ہو۔ دفعٌ مُعَجَّلاً: پیشگی ادائیگی کرنا۔ قاضی الامور المستعجلة: سرسری فیصلہ کا مجسٹریٹ Magistrat of summary justice

عجم: ۱۔ عَجَمَ ـُ عَجْمًا و عُجُومًا العودَ: دانت سے کاٹ کر لکڑی کی سختی یا نرمی معلوم کرنا۔ ـــ السیفَ: تجربہ کیلئے تلوار کو حرکت دینا۔ ـــ الشیءَ: کا امتحان کرنا، آزمائش کرنا، صفت عَاجِم جمع عُجَّم ـــ تْهُ الأمورُ: کو عادی بنانا۔ کہتے ہیں۔ ما عَجَمَتْهُ عینی منذ کذا: کو میں نے فلاں وقت سے نہیں دیکھا۔ رأیت فلانا فجعلت عینی تعجمهٗ کأنها تعرفه: میں نے فلاں کو دیکھا تو میری آنکھیں اس کا جائزہ لینے لگیں جیسے وہ اسے جانتی ہوں۔ عَجَمَ عودَ فلان: اس نے فلاں کی آزمائش کی اور

اس کے حال کی تحقیقات کی۔ عَاجَمَہٗ کا تجربہ کرنا، کہتے ہیں۔ عاجمتُ الامور و عاجتمنی میں نے معاملات کی آزمائش کی اور معاملات نے میری۔ العَجمَۃ جمع عَجمَات بہ اسم مرۃ۔ العواجم (جس کا مفرد عَاجِمَۃ ہے) دانت رجُلٌ صُلبُ المَعجَم جو شخص آزمائش کے وقت سخت ہو۔

۲۔ عَجَمَ ــُ عَجمًا الکتابَ او الحرفَ: کتاب یا حرف پر نقطے لگانا۔ عَجَّمَ و أَعْجَمَ الکتابَ: کتاب پر نقطے اور حرکات لگا کر یا تفسیر کر کے ابہام دور کرنا (ضد) کتاب پر اعتراب نہ لگانا۔ المُعجَم (مصدر میمی) لغت کی کتاب، قاموس، حروف المُعْجَم: حروف تہجی۔

۳۔ عَجُمَ ــُ عُجمًا الکتابَ: حروف پر اچھی طرح وقف نہ کرنا۔ عَجَمَ ــُ عُجمَۃً زبان میں لکنت ہونا صفت أعجَم م عَجماء جمع عُجم عَجَّم الکتابَ: کتاب پر اعراب نہ لگانا (ضد) أَعْجَمَ الکتابَ: کتاب پر اعراب نہ لگانا (ضد) ــــ الکلامَ: عجمی زبان میں بات کرنا۔ البابَ دروازہ پر قفل لگانا۔ تَعَاجَمَ الرجلُ عجمی بننا، عجمی ظاہر کرنا۔ ــــ القومُ: کنایہ کرنا، توریہ کرنا۔ اِنعَجَمَ علیہ الکلامُ پر گفتگو یا بات یا کلام دشوار ہونا یا مبہم ہونا۔ اِستَعجَمَ: عجز سے ساکت ہونا۔ ــــ القراءۃَ: پڑھنے پر قادر نہ ہونا۔ ــــ علیہ الکلامُ پر کلام کا دشوار ہونا، مبہم ہونا۔ العُجم غیر عرب۔ العَجَم: غیر عرب۔ فارس۔ فارسی لوگ۔ الأَعْجَام غیر عرب۔ العُجمَۃ و العِجمَۃ ابہام، کھول کر بیان نہ کرنا۔ الأَعْجَم جمع أعجَمُون و أعَاجِم: غیر عربی، اگرچہ فصیح عربی بولتا ہو، جو صاف کھول کر بیان نہ کرے، اگرچہ عربی ہو، گونگا۔ العَجماء جمع عَجمَاوات اعجم کا مونث، چوپایہ، حدیث میں ہے جرحُ العجماء جُبار یعنی چوپائے کو زخمی کرنا، رائیگاں جاتا ہے کیونکہ اسے کئے کی سزا نہیں دی جاتی۔ الأَعْجَمِیّ و العَجَمِیّ: غیر عرب جو عجم کی جانب منسوب ہو۔ بابٌ مُعجَم مقفل دروازہ۔

۴۔ العَجَم و العُجم دم کی جڑ۔ العَجَم و العُجَام (واحد عَجَمَۃ و عُجَامَۃ) چھوارے کی گٹھلی، گٹھلی، کہتے ہیں۔ لیس لهذا الرُّمّان عَجَم اس انار کی گٹھلی نہیں ہے۔ العَجمَۃ جمع عَجَمَاوات: سخت چٹان۔ العُجمَۃ و العِجمَۃ ریت کا ڈھیر۔ العَجمَۃ خرما کا درخت۔ العَجماء ریت کا ٹیلہ جس میں درخت نہ ہو۔ العجّام (ح) بڑی چمگادڑ۔

○ انعجم علی: (زبان کا کسی پر) غیر واضح ہونا، ناقابل فہم ہونا۔ استعجم: غیر عربی ہو جانا۔ عَجَم (اسم جنس) غیر عرب، جانگلی، غیر مہذب وحشی، اہل فارس العَجَم او بلادُ العَجَم: فارس Persia عَجَم (اسم جنس) جس کا واحد عجمۃ آتا ہے) گٹھلی، گری، مغز، گڑھا، بیج (پھل کا) عَجَمِی جمع أعجَام: جانگلی، غیر مہذب وحشی، غیر عرب، فارسی (صفت واسم) عُجمَۃ جہالت، عدم تہذیب وحشیانہ پن، عربی بولنے میں غلطی۔ عَجماء جمع عَجمَاوات: گونگا یا بے زبان جانور۔ أعجَم مونث عجماء جمع اعاجم بغلط عربی بولنے والا، گونگا، بے زبان، وحشی، جانگلی، غیر مہذب، غیر عربی، اجنبی، غیر ملکی، پردیسی، فارسی۔ اعجمی: غیر عربی، غیر عرب، اجنبی، پردیسی غیر ملکی فارسی۔ مُعجَم: ناقابل فہم، مبہم، غیر واضح (زبان گفتگو)۔ منقوط، نقطے دار جمع مَعاجِم: کتاب لغت، ڈکشنری، لغات، قاموس (Lexicon) حروف المعجم حروف تہجی۔

عجن ۱۔ عَجَنَ ــِ عَجنًا الدقیقَ آٹا گوندھنا۔ تَعَجَّنَ الشیءُ: گندھ جانا۔ اِعتَجَنَ الدقیقَ: آٹا گوندھنا۔ ــــ فلانٌ خمیر بنانا۔ العَجِین جمع عُجُن: گندھا ہوا آٹا۔ العَجِینَۃ گندھے ہوئے آٹے کا پیڑا۔ المِعجَن و المِعجَنَۃ آٹا گوندھنے کا کونڈا، پرات۔

۲۔ عَجَنَ ــِ عَجنًا علی العصا لاٹھی پر ٹیک لگانا۔ ــــ الرجلُ: ہاتھوں پر ٹیک لگا کر اٹھنا (بڑھاپے یا موٹاپے کی وجہ سے) صفت عَاجِن جمع عُجُن: کہا جاتا ہے۔ فلانٌ عجن و خبز یعنی وہ بوڑھا ہو گیا۔ أَعْجَنَ الرجلُ کہنہ سال ہونا۔ العَجَّان بہت آٹا گوندھنے والا۔ العَجِین جمع عُجُن: ہیجڑا۔ العُجُن ڈھیلے ڈھالے (مرد، عورت) العجینۃ: ہیجڑا۔

۳۔ عَجَنَ ــَ عَجَنَات الناقۃُ اونٹنی کا فربہ ہونا۔ العَجِن م عَجِنَۃ من الجمال موٹا اونٹ۔ العَجْناء: بہت موٹی اونٹنی۔

۴۔ عاجنۃُ المکان جگہ کا درمیانی حصہ۔ العِجَان: سرین، گردن۔ العَجَّان بیوقوف، العَجناء کم دودھ والی اونٹنی۔ العَجِینَۃ بیوقوف، جماعت، گروہ۔

○ عَجَنَ ــِ عَجنًا ہ کو گوندھنا، بھگونا، لَتَّ و عَجَن فی مسألۃ مسئلہ بار بار پیش کرنا، بار بار ایک ہی مسئلہ کی بات کرنا۔ عَجِین گندھا ہوا آٹا، لئی۔ عَجِینۃ نرم ڈلا، سیلا آمیزہ جمع عَجَائن پلاسٹکس (Plastics) مِعجَن جمع مَعَاجِن: آٹا گوندھنے کی ناند، آٹا گوندھنے کی مشین۔ مَعجُون جمع مَعاجِین لئی، کریم (Cream) پوٹین۔ معجون۔ معجون الاسنان: دانتوں کا منجن، ٹوتھ پیسٹ (Tooth paste)

عجه ۱۔ عَجَّہَ بینهما: دونوں کے درمیان جدائی کرا دینا۔ تعَجَّہَ جاہل بننا۔ ــ الامرُ غیر واضح ہونا، مبہم ہونا العُجَاهِن جمع عَجَاهِنَۃ سیہ، خارپشت۔ غیر خالص النسب۔ خادم، باورچی۔

عجا ۱۔ عَجَا ــُ عَجْوًا تِ الأمُّ الولدَ ماں کا بچہ کو دودھ پلانے کے اوقات کے بعد دودھ پلانا، بچہ کو دودھ پلانا۔ ــ ہ اللبنُ کیلئے دودھ کا غذا ہونا۔ کہتے ہیں۔ لقی فلانٌ ماعجاہ وہ سختی میں مبتلا ہوا۔ ــــ و عَاجَی الولدَ: کو ماں کے بجائے کسی اور عورت کا دودھ پلانا، یا دودھ روک کر کھانا کھلانا۔ عَجِیَ ــَ عَجًی الصبیُّ دودھ کے علاوہ کسی اور چیز سے پرورش پانا۔ العُجَاوۃ و العِجَاوۃ و العُجوۃ یتیم کو پلایا جانے والا دودھ۔ العَجِیّ م عَجِیَّۃ جمع عَجَایا ماں نہ ہونے کی وجہ سے کسی اور کا دودھ پینے والا بچہ (اونٹ یا انسان کا)۔ العُجِیّ م عُجَیَّۃ جمع عُجَایا و عَجَایا: وہ بچہ جس کی ماں نے اسے اوقات کے بعد دودھ پلایا ہو، وہ بچہ جس نے دوسری عورت کے دودھ پر پرورش پائی ہو۔

۲۔ عَجَا ــُ عَجْوًا البعیرُ اونٹ کا بلبلانا اور سرکش ہونا۔ فلانٌ فاہ: منہ کھولنا۔ ــــ و عجّیٰ و جهَہٗ منہ ٹیڑھا کرنا۔

۳۔ العَجْوۃ و العُجَاو عمدہ قسم کی کھجور۔

○ عَجْوۃ دبائی ہوئی کھجوریں (Pressed dates)

عجی: عَجَی ــ عَجَیَات المرأۃ صَبِیَّها: عورت کا اپنے بچہ کو دودھ پلانا۔ العَجَایۃ و العُجَایۃ جمع عُجًی و عُجِیّ و عَجَایا عمدہ قسم کی کھجور۔ جانور کے پہنچے کا پٹھا۔

عدد عَدَّ ــُ عَدًّا و تَعدَادًا الشیَٔ کو شمار کرنا، گننا، گمان کرنا، کہتے ہیں۔ عددتُ زیدًا صادقًا میں نے زید کو سچا گمان کیا۔ عَدَّدَ المیتَ مرنے والے کی خوبیاں بیان کرنا، شمار کرنا۔ ــــ الشیَٔ کو شمار کرنا، کو عدد والا کرنا، کو نمبر دینا۔ عَادَّ عِدَادًا و مُعَادَّۃً الشیَٔ القومُ چیز کا قوم پر برابر تقسیم ہونا۔ تَعَدَّدَ و تَعَادَّد میں بڑھنا، متعدد ہونا کہتے ہیں۔ ھم یتعددون و یتعادون علی الالف وہ ایک ہزار سے زائد ہیں۔ اِعتَدَّ شمار ہونا۔ کہتے ہیں: ھذا شیءٌ لا یعتدبہ یہ ایسی چیز

ہے جس کی طرف التفات نہیں کیا جاتا۔ اِعْتَدَّ الأَمرِ تجارةً: اس نے معاملہ کو تجارت سمجھا۔ إعْتَدَّ بنفسه: اس نے اپنی ذات پر اعتماد کیا۔ العَدَد جمع أَعْدَاد: شمار، گنتی، گنا ہوا (یہ باب فعل سے مفعول کے معنی میں ہے)۔ ۔ من الانسان. آدمی کی عمر کے سال۔ العدد الصحیح. جیسے ۱، ۲، ۳، صحیح عدد میں وہ عدد جو دو پر تقسیم ہو جائیں اور باقی کچھ نہ بچے انہیں زوج یا مُزدَوَج کہتے ہیں۔ جیسے ۴، ۱۲۔ العدد المفرد: جو زوج کا برعکس ہو جیسے ۳، ۵۔ العددالاوّلی او الاوّل او الاصلی جو حرف اپنے آپ پر یا ایک پر تقسیم ہو۔ جیسے ۱۱، ۱۳، العدد الکسری او الکسر. اکائی کا جز، یا اجزا جیسے ۲/۱، ۴/۷۔ العدد الموجب جس سے پہلے اشارہ (+) ہو۔ العدد السالب او السلبی. جس سے پہلے اشارہ (-) ہو العدد التخیلیَ او الوهمیَ: جیسے ب+ ج ن، یہاں ب ج جبری ہیں اور ن جذر ہے۔ العدد التربیعی: عدد کی مطلق یا حسابی قیمت یعنی اشارہ کے بغیر اس کی قیمت جیسے +۴ یا -۴ میں ۴۔ العددان المتناظران او المتقابلان (الجبراء میں)۔ ان دو عددوں کی حسابی قیمت ایک ہوتی ہے مگر اشارہ سے مختلف ہو جاتی ہے۔ +۵ و -۵۔ پہلے دو عدد کا کوئی بھی صحیح مشترک قاسم نہیں جیسے ۴ و ۹۔ الاعداد المتباینة عند العرب: کسر یا صحیح عدد انہیں باہم شمار نہیں کرتا بصورت دیگر وہ مشترک ہیں۔ الاعداد الموجّهة او الجبریة: (+) یا (-) کے اشاروں کے بعد حسابی عددوں کو کہتے ہیں اور ان میں صفر شامل کیا جاتا ہے۔ العِدّ ج أعْدَادُ: وہ جاری پانی جو منقطع نہ ہو کثرت، کہتے ہیں۔ هذا برضٌ من عِدَّة: یہ بہت سے میں سے تھوڑا سا ہے۔ العِدَّة جمع عِدَد: جماعت، کہتے ہیں۔ عِندی عِدَّةُ کتب: میرے پاس چند کتابیں ہیں۔ عِدَّةُ المَرأة: عورت کا شوہر کی وفات پر سوگ کا زمانہ، مسلمانوں میں طلاق کا زمانہ بھی عدہ کہلاتا ہے۔ العِدَاد: عاد کا مصدر۔ عطا، بخشش، موت کا وقت، پیشی کا دن، دیوانگی کا اثر، ــــ من الوجع: وقت مقررہ پر درد کا بڑھنا۔ کہتے ہیں۔ به مرضُ عِدَادٍ: اس کا مرض وقت مقرر پر لوٹتا ہے۔ هو فی عِدَادهم: وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ العَدَّاد: میٹر Meter جیسے سپیڈو میٹر Speedometer اسے [illegible] اور [illegible] بھی کہا جاتا ہے۔ العَدّان والعِدّان جمع [illegible] کسی چیز کا زمانہ یا موسم یا زمانے کا اول اور بہتر حصہ۔ (کہتے ہیں۔ کان ذلك فی عدّان الشباب و علی عدان ملکه: یعنی یہ اس کے عہد شباب میں اور ملک کے بہترین عہد میں ہوا۔) دور اور پانی یا بارش کی معینہ مدت (سریانی)۔

① عَدَّ ـُ عَدًّا ہ / ہ من کو میں گننا، شمار کرنا، نمبر دینا۔ ۔ ہ کو متحد کرنا، گننا، فہرست سے ایک ایک نام پڑھنا، کا حساب لگانا، کو گننا، شمار کرنا، کا اندازہ کرنا، کا تخمینہ لگانا۔ ہ / ہ ہ کو کچھ خیال کرنا، سمجھنا۔ عُدَّ ہ کو کچھ سمجھا جانا، خیال کیا جانا۔ عُدَّ ہ: غلطی سے کچھ سمجھا جانا، ۔ عُدّب مراد ہونا، معنی یہ ہونا کہ عدّ الانفاس علیه: کے سانس گننا، یعنی کی سخت نگرانی کرنا، پر کڑی نگاہ رکھنا، کی ہر حرکت کی نگہبانی کرنا۔ عد ہ علی. کو کے مفاد کیخلاف لکھنا۔ لا یُعَدُّ: بے شمار، لاتعداد، ان گنت، عَدَّد ہ کو گننا، شمار کرنا، کو بہت بنانا، کو متعدد کرنا، بڑھانا، کو مرکب بنانا۔ عدّد المیّتَ: مرنے والے کی تعریف کرنا، کی خوبیاں یا اوصاف بیان کرنا۔ اَعدّ ہ / ہ ل کو کیلئے تیار کرنا۔ ــــ ہ ل کو کے لئے تیار کرنا، کو کے مطابق بنانا، کو کیلئے بنانا۔ اعَدَّ ہ: (رپورٹ) تیار کرنا۔ ــــ ہ: اپنا سبق تیار کرنا۔ اَعَدَّ عُدَّته ل: کیلئے تیاریاں کرنا۔ تعدّد: متعدد ہونا، گوناں گوں ہونا، مختلف ہونا۔ تعداد میں زیادہ ہونا۔ مرکب ہونا۔ إعْتَدّ ہ / ہ ہ کو کچھ سمجھنا، ــ ب: سے حساب چکانا، پر بھروسہ کرنا۔ ــ ہ ب ل کو کے حساب میں لکھنا، کو کی نیک نامی، شہرت میں لکھنا۔ ــ ہ علی: کو کے مفاد کے خلاف لکھنا۔ ــ علی ب: کی وجہ سے کسی کے خلاف احتجاج کرنا۔ ــــ ب: سے آراستہ ہونا، ــــ عورت کا دوسری شادی سے قبل عدت میں ہونا۔ اِستَعَدّ: تیار ہونا۔ ــــ ل: کیلئے تیار ہونا، آمادہ ہونا، مستعد ہونا، عُدَّة: تیاری۔ جمع عُدد: ساز و سامان، لباس، اوزار، آلہ، ہتھیار، وسیلہ، تدبیر، صیغہ، ترکیب، ایجاد، اختراع، (بادبان وغیرہ کے) رسے، سامان، بادبان، (گھوڑے کا) ساز و یراق، اخذ او اَعَدّ عُدَّتَه ل: کے لئے تیاریاں کرنا۔ اخذ عُدّة الشیٔ: کیلئے تیاریاں کرنا۔ عدةُ الساعة: چرخدار اور کمانی دار (کل) (Clock work) عِدّة: عدد، کئی (رجالٌ عِدّةٌ: بہت آدمی۔ عِدّةَ مرّات: کئی بار،) عدت مطلقہ اور بیوہ ہونے کے بعد عورت کے دوسری شادی سے پہلے مقررہ وقت کا انتظار (اسلامی قانون میں)، عَدَد جمع اعداد: نمبر، ہندسہ (صفر سے ۹ تک کا کوئی ہندسہ) صفر، مقدار، کمیت، تعداد، نمبر، شمارہ (اخبار وغیرہ کا) عدد خاص، خاص شمارہ، خاص عدد، خاص نمبر۔ عدد عدید: بڑی مقدار، بڑا ہجوم۔ هذا عدیدُ ذاك: یہ اس کے برابر ہے۔ عدّاد جمع عَدّادات: گننے والا یا شمار کرنیوالا، میٹر (جیسے بجلی گیس وغیرہ کا میٹر)۔ تعدادُ الانفس: مردم شماری (Census)۔ لا عِدادَ له: بے شمار، ان گنت، فی عداد کے درمیان میں، جیسے هو فی عِدادهم: وہ ان میں سے شمار کیا جاتا ہے، وہ ان میں سے ایک ہے۔ إعدادی ابتدائی (Preparatory) شهادةٌ إعْدادِیَة: ثانوی سکول کے چار سال مکمل کرنے پر دیا جانے والا سرٹیفکیٹ۔ تَعَدُّدُ الآلِهَة: شرک۔ Polytheism۔ تعدد الزوجات: کثیر الازدواجی (Polygamy)۔ اِعْتِدَادٌ ب: پر اعتماد، بھروسہ، اعتبار۔ الاِسْتعدادل: کے لئے تیار ہونا، آمادہ ہونا، مائل ہونا، کے قابل ہونا، پر قدرت رکھنا۔ استعدادی: ابتدائی Preporatory۔ معدود: قابل شمار، محدود تعداد میں، تھوڑا، چند، کچھ۔ مُعَدِّدة: کرایہ پر لی ہوئی، ماتم کرنے والی۔ مُعَدٌّ ل: کے لئے مقرر شدہ، ہو کر رہنے والا، کیلئے تیار، تیار کیا گیا، کے لئے آمادہ۔ مُعَدّات: ساز و سامان، گیئر، اوزار، ہتھیار۔ معدات حربیة: یا (عسکریہ): جنگی سامان۔ معدات الحریق: آگ بجھانے کا سامان۔ متعدد الخَلایَا: متعدد خانوں والا۔ متعدد النواحی: گوناگوں، مختلف، بوقلموں متنوع، قسم قسم کا، مختلف قسموں کا۔ العَدَدِی: عدد کی طرف منسوب، جو چیز گنتی سے بیچی جائے۔ العدید جمع عَدائِد: عدکا اسم شمار تعداد کہتے ہیں: ما أکثرَ عدیدهم: ان کا شمار کس قدر کثیر ہے یا ان کی تعداد کس قدر زیادہ ہے۔ هذه الدراهم عدیدُ هذه: یہ درہم اس کی مقدار میں ہیں یعنی اس کی قیمت کے برابر ہیں، شمار کیا ہوا۔ ــــ من القوم: جو شخص قوم میں شمار کیا جائے۔ العَدائِد: تقسیم شدہ مال، میراث۔ ۔ العدیدة: عدید کا مونث، حصہ۔ ایام عدیدة جمع عدائد: چند دن، گنے چنے دن۔

۲۔ عَدَّدَ المالَ: زمانہ کے لئے ساز و سامان بنانا۔ اَعَدَّهُ لِأَمْرٍ: کو کیلئے تیار کرنا، حاضر کرنا۔ اِسْتَعَدَّ للامر: کیلئے تیار ہونا، العُدَّة جمع عُدَد: تیاری، (کہتے ہیں۔ کونوا علی عُدَّة: تیار رہو،) سامان جنگ مال وغیرہ، کہتے ہیں۔ اخذ للامر عُدَّتَه: اس نے معاملہ کے لئے سامان تیار کر لیا۔ عُدّة الفرس: کاٹھی، زین۔ عدةُ البنّاء والنجّار وغیرهما: معمار، بڑھئی وغیرہ کے اوزار۔ المُعِدّ (نا): پورے سامان والا۔

۳۔ عَادَّ عِدَادًا و مُعَادَّةً ہُ: سے لڑائی میں مقابلہ کرنا۔ العِد جمع اَعداد: ہمسر، کہتے ہیں هو عِدّك: وہ

تمہارا ہمسر ہے۔ العدید ہمسر۔ العدید جمع
عداید ہمسر، ہم مثل۔ العَدَائِد ہم مثل۔ (جمع)
۴۔ العُدّ چہرے کی پھنسیاں۔ العِدّ جمع اَعْداد پرانا
کنواں۔ العِداد من القوس کمان کی آواز۔
عدر ا۔ عَدَرَ ـــ عَدْرًا و عُدْرَۃً جرأت کرنا، دلیری
کرنا۔
۲۔ عدِرَ ـ عَدَرًا و اَعْتَدَرَ المکانُ جگہ کا زیادہ پانی والا
ہونا۔ ـــ المطرُ بارش کا بکثرت برسنا۔ العَدَر
و العَدِر کثیر موسلا دھار بارش۔
۳۔ العَادِر جھوٹا، پھسلنے والا۔ العَدَّار ملاح۔
عدس ا۔ عدَسَ ـ عدْسَاۃً کی خدمت کرنا۔ ـــ
المواشی مویشیوں کو چرانا۔
۲۔ عدسَ ـ عَدَسَ الشیئَ کو سخت روندنا۔ ـــ عدَسَ
عدسانًا و عِداسًا و عُدُوسًا فی الارض زمین
میں جانا، سفر کرنا کہتے ہیں۔ عدست بہ المَنِیَّۃُ اسے
موت لے گئی۔ عادس الرجلُ ہمیشہ چلتا رہنا، نہ
رکنا۔
۳۔ عَدس (طب) پھنسیوں والا ہونا صفت۔ مَعْدُوس۔
العدس واحد عدسۃ (ن) مسور۔ عَدَسُ الماء
(ن) دلدلوں اور جھیلوں میں تیرتے ہوئے اور بڑے
بڑے رقبوں پر چھائے ہوئے پودے۔ العَدَسۃ
کیل، مہاسہ۔
۴۔ عدس خچر ہانکنے کی آواز۔ خچر کا نام۔ العدسۃ
العدسیۃ (ف) لینس (Lens)، کیمروں،
دوربینوں اور عینکوں میں استعمال ہونے والا شیشہ۔
○ عَدس اسم جنس (واحد عدسۃ)، مسور۔ عدسۃ جمع
عدسات لینس (Lens)، محدب شیشہ، کلاں نما
Magnifrying Glass مشاہدے کا لینس
(Object lens)
عدف ا۔ عَدَفَ ـ عَدْفًا و تعدّف تھوڑا کھانا، کم کھانا،
کہتے ہیں۔ ماعَدَفْتُ او ماتَعَدَّفْتُ الیوم: یعنی
آج تو میں نے تھوڑا سا بھی نہیں کھایا۔ چہ جائیکہ بہت
سا کھاتا۔ العَدَف جمع عُدُف تھوڑا سا عطیہ، تھوڑا
سا چارہ، کہتے ہیں۔ ماذقنا عَدْفًا و عَدَفًا و عُدافًا
و عَدُوفَۃً: یعنی ہم نے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں
چکھی۔ العَدُوف تھوڑا سا چارہ، کہتے ہیں۔ ماذقنا
عَدُوفًا: ہم نے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں چکھی۔
۲۔ عَدَفَ الثوبَ کپڑے کا ٹکڑا لینا۔ العِدْفُ لوگوں
کی ایک جماعت، رات کا ایک حصہ۔ العِدْفَۃ جمع
عِدَف کسی چیز کا ایک ٹکڑا، لوگوں کی ایک جماعت۔
العَدَفَۃ جمع عَدَف زمین کے اندر درخت کی جڑ۔

التَعْدَف چیز کا ٹکڑا۔
عدق عَدَقَ ـ عَدْقًا و عَدِقَ ـ عَدَقًا و عَدَّقَ و اَعْدَقَ
بَدَہٗ کنویں یا تالاب کے کناروں میں کوئی چیز تلاش
کرتے ہوئے ہاتھ ڈالنا۔ ـــ بظنِّہٖ انکل سے کام
لیتے ہوئے کچھ تلاش کرنا۔ العَدَقۃ و العَوْدَق
و العوذقۃ جمع عدق ڈول کنویں سے نکالنے کے
لئے استعمال کیا جانیوالا، تین شاخوں کا کانٹا۔
عدک عدَکَ ـ عَدْکًا الصوف اون کو دھننے کے لئے
ڈنڈے سے مارنا۔
المِعْدَکۃ اون دھننے کا ڈنڈا۔
عدل ا۔ عدَلَ ـ عَدْلًا السھم و نحوہٗ تیر وغیرہ کو
سیدھا کرنا۔ ـ فلانًا بفلان کو کے ساتھ یکساں درجہ
پر رکھنا۔ ـــ فلانًا کا موازنہ کرنا۔ ـــ بربہ شرک
کرنا۔ عُدُولًا ذُفی المحمل کے ساتھ ڈولی میں
سوار ہونا، کہتے ہیں۔ مایعدلک عندی شیٔ
میرے نزدیک تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ ـــ عَدْلًا و
عَدالۃً و عُدولۃً و مَعْدِلۃً و مَعْدَلۃً: انصاف کرنا،
صفت عادل جمع عُدول۔ عَدُلَ ـ عَدَالَۃً عادل
ہونا۔ عَدَّلَ الشِعْرَ شعر کو درست وزن پر کرنا۔ ـــ
المتاع سامان کو دو برابر حصوں میں کرنا، سامان کی دو
گٹھڑیاں بنانا، کہتے ہیں شرب حتی عَدَّلَ: اس
نے اتنا پیا کہ پیٹ گٹھری کی طرح ہو گیا۔ عادَلَ عِدَالًا
و معادلۃً کا موازنہ کرنا، کو ہم وزن کرنا۔ ـــ ہ فی
المحمل کے ساتھ ڈولی میں سوار ہونا۔ ـــ بین
الشیئین دونوں کو برابر درجہ دینا۔ جب دو باتیں پیش
آئیں اور سمجھ میں نہ آئے تو کس کو اختیار کیا جائے تو
کہتے ہیں عادل بین الامرین۔ اَعْدَلَ الشیئَ کو سیدھا
کرنا، ہموار کرنا۔ اِعْتَدَلَ سیدھا ہونا۔ دو حالتوں
میں متوسط حال اختیار کرنا۔ العادِل (فا) جمع عُدُول.
مُشرک۔ العَدْل (مص) انصاف، عادل (کہتے
ہیں۔ رَجُلٌ عَدْلٌ و امراۃٌ عَدْلٌ و عَدْلَۃٌ و رجال
عَدْلٌ: عادل مرد یا عورت۔ رجُلانِ عَدْلانِ و
رجال عُدُول: دو یا زیادہ عادل مرد۔) پیمانہ، جزاء،
بدلہ، برابری، معاملات میں اعتدال، متوسط بات،
استقامت۔ ـــ جمع اَعْدال: نظیر، مثل۔ العِدْل جمع
عُدُول و اَعْدال: نظیر، مثل، قیمت (کہتے ہیں۔
خُذْ عِدْلَہٗ کذا او کذا: اس کی اتنی قیمت لے لو۔)
گون۔ جانوروں کی پیٹھ پر ایک طرف کا بوجھ۔
العَدَل: دونوں گونوں کی برابری۔ العَدِل: عادل،
منصف۔ العَدِیْل جمع عُدَلاء: نظیر، مثل، ردیف۔
الاعتدال الربیعی موسم ربیع میں رات دن کا برابر

ہونا۔ الاعتدال الخریفی موسم خریف میں رات
دن کا برابر ہونا۔ نقطۃ الاعتدال الربیعی
والخریفی (فلک): نقطہ اعتدال، اعتدال شب و
روز (equinox) المعادلۃ (ع ج): مساوات
(حساب میں) توازن۔ مُعَدَّلات البیت گھر کے
کونے۔
۲۔ عدَلَ ـ عَدْلًا الطریقُ: راستہ کا ٹیڑھا ہونا۔ ـ عَدْلًا
و عُدُولًا عن الطریق: راستہ سے ہٹنا۔ ـ عُدولا
الیہ کے پاس واپس آنا، سے رجوع کرنا۔ عَدِلَ ـ
عَدَلًا ظلم و جور کرنا۔ عادَلَ عِدَالًا و مُعادَلۃً الشیٔ
ٹیڑھا ہونا۔ ـــ فی الامر معاملہ میں متردد ہونا۔
انعَدَلَ عن الطریق: راستے سے ہٹنا۔ العَدَل
معاملات میں اعتدال، العِدَال: (عادل کا مصدر)
کہتے ہیں۔ قطع العدال فی امرہ اس نے اپنے
معاملہ کا پختہ ارادہ کر لیا۔ المَعْدِل و المَعْدُول
پھرنے کی جگہ کہتے ہیں۔ مالہ مَعْدِل او مَعْدُولٌ
عن کذا اس کے لئے فلاں بات سے پھرنے کی
کوئی جگہ نہیں۔ اخذ مَعْدِل الباطِل اس نے باطل
راہ اختیار کی۔
۳۔ عَدَّلَ الشاھِدَ گواہ کو قابل اعتبار قرار دینا۔ العَدَلَۃ
و العُدَلَۃ: معتبر گواہ۔ بعض کے نزدیک عُدَلۃ واحد کیلئے
اور العَدَلۃ جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
○ عَدَلَ ـ عَدْلًا و عَدالۃً: انصاف کرنا۔
○ عَدَلَ ـ عُدولًا عن الی سے کی طرف پھرنا سے کی
طرف انحراف کرنا۔ عَدَلَ عن: سے روگردانی کرنا، کو
ترک کرنا، سے بے تعلق یا لاعلمی ظاہر کرنا، کا انکار کرنا۔
عدل بہ عن: کو سے باز رکھنا، کو سے علیحدہ کرنا، کو
سے دستبردار کرنا، عَادَلَ ہ/ ہ: کے برابر ہونا، ـــ ہ:
جتنا ہونا۔ ـــ ہ: کے مقابل میں اپنا وزن رکھنا، سے
زیادہ بھاری ہونا، سے زیادہ اہم ہونا۔ ـــ بین ـ و
بین: دو شخصوں یا چیزوں کو برابر درجہ دینا۔ برابر سمجھنا۔
اَعْدَلَ ہ کو سیدھا کرنا، یا سیدھا رکھنا۔ تَعَدَّلَ تبدیل
ہونا، میں ترمیم ہونا، ترمیم یا تبدیلی سے گزرنا۔
تَعَادَلَ: متوازن ہونا، برابر ہونا۔ اِعْتَدَلَ: سیدھا
ہونا، ہموار ہونا، متوازن ہونا، معتدل ہونا۔ عَدْلًا:
انصاف سے، از روئے انصاف۔ وزیر العدل
وزیر انصاف۔ عَدْلِیٌّ: عدالتی، قانونی، ججوں سے
متعلق، قانونی کارروائی سے متعلق، فقیہانہ عِدْل:
برابر، مترادف، مماثل، مساوی، جمع اَعْدال و عُدول:
بار برداری کے جانور پر لدے ہوئے وزن کے دو برابر
نصف حصوں میں سے ایک، بوری، تھیلا، عدیل

برابر، مانند، مترادف، مماثل، مساوی، جمع عدائل۔ بہنوئی۔ عَدَالَه: انصاف، غیر جانبداری، دیانت داری، دیانت، ایمانداری، سلیقہ، شائستگی، معقولیت، مناسب کردار، قابل احترام ریکارڈ۔ وزیر العدلیّة: وزیر انصاف۔ اَعْدَلُ زیادہ باقاعدہ، زیادہ یکساں، زیادہ متوازی، زیادہ منصفانہ، زیادہ انصاف پرور، تعدیل وزاری کابینہ میں ردوبدل Cabinet Rashuffle تعادل الاصوات۔ ووٹوں کی یکساں تعداد۔ ٹائی ووٹ۔(Tie vote) مُعَدَّل: اوسط، اوسط تعداد یا رقم، معدل السرعه اوسط رفتار۔ بمُعَدَّل: بطور اوسط اوسطاً۔

عدم: عَدِم ۔عُدْمًا و عَدَمًا المالَ مال سے محروم ہونا، کو کھونا، گنوا دینا، کہتے ہیں۔ مایَعْدَمُنی هذا الامرُ یہ معاملہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا۔ عَدُمَ ۔ عُدَامَةً بیوقوف ہونا۔ اَعْدَم اَعْدَامًا الرجل محتاج ہونا صفت مُعْدِم و عَدِیم ۔ ہ الشیٔ کو سے محروم کرنا ۔ فلانًا کو منع کرنا۔ اَعْدَمِنی الشیُٔ میں نے چیز کو نہیں پایا۔ العُدْم و العُدُم فقدان۔ العَدَم فقدان، عدم وجود، العَدِم محتاج، فقیر۔ العَدِیم جمع عُدَمَاء فقیر، احمق، دیوانہ، غیر موجود کہتے ہیں هو عدیمُ النظیر: اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ بے مثل و بے نظیر ہے۔ المَعْدُوم (مفع) غیر موجود۔ ــــ المُنْعَدِم (ر ع ح)۔ صفر کے برابر۔

ⓒ عَدِمَ ۔عُدْمًا و عَدَمًا ہ سے محروم ہونا، خالی ہونا، کا ضرورت مند ہونا، ناقص ہونا، کو نہ رکھنا۔ ہ کو کھونا، کی کمی محسوس کرنا۔ عُدِم کم ہونا، مفقود ہونا، غیر حاضر ہونا، غیر موجود ہونا، مفقود ہونا، جاتا رہنا، غائب ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ اَعْدَمَ ہ کو سے محروم کرنا۔ کوئی چیز اس کے پاس نہ رہنے دینا، کو کسی چیز کے گنوانے یا اس کی کمی کا باعث بننا۔ ہ کو برباد کرنا، تباہ کرنا، صفحۂ ہستی سے مٹا دینا۔ ــ ہ کو قتل کرنا، کی گردن مارنا، کو پھانسی دینا۔ تَعَدَّمَ غریب ہونا، یا ہو جانا، اِنْعَدَم عدم کے معنی میں۔ عَدَم عدم وجود، احتیاج، حاجت ضرورت، کمی، غیر موجودگی، غیر حاضری، نقصان، غریبی، غربت، افلاس، مفلوک الحالی، محرومی، جمع اَعْدَام: عدم غیر اہم شخص، معدوم شی بے لطفی، معمولی سی چیز۔ عدم الاهتمام بے توجہی بے پروائی، بے رخی، بے اعتنائی۔ عدم الاختصاص بے اختیاری۔ عدم الوجود عدم وجود، نیستی، عَدَمی ہر مروجہ نظام کا مخالف (nihilist)۔ عَدَمِيَّة: عدم وجود، معاشرہ میں ہر قسم کے منظم نظام حکومت کے قیام کی مخالفت (Nihilism)۔ عدیم الحیاة بے جان، عدیم النظیر بے مثال، بینظیر، فقید المثال، منفرد۔ اِعْدَام پھانسی دینا۔ الحکم بالاعدام پھانسی کا حکم یا فیصلہ۔ اعدامیة عقال کے بغیر سر پر رکھنے کی چادر (سوگ کی علامت کے طور پر)

عَادِم جمع عَوَادِم غیر موجود، مفقود، ناقابل بحالی، ناقابل اصلاح، ردی (مرکب الفاظ میں) جمع عوادم: ردی، فضلہ، ردی اشیاء، المیاه العادمة گندے نالے کا پانی، عوادم الاقطان: اس سوت کا گودڑ cotton waste۔ انبوبة العوادم: بچی کھچی بھاپ وغیرہ نکالنے کا پائپ۔ Exhaust pipe جو کاروں اور دوسری گاڑیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

عدن ۱۔ عَدَن ــِ عَدْنًا و عُدُونًا بالمکان کسی جگہ پر اقامت کرنا۔ رہائش کرنا ــــ البلدَ کسی ملک کو وطن بنانا۔ ــــ ـِ عَدْنًا الحجرَ پتھر اکھاڑنا۔ عَدَّن الارضَ بالمعْدَن: زمین سے معدنیات نکالنا۔ العَدْن: عَدَن کا مصدر۔ جنّةُ عَدْن: وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو رکھا۔ جنّاتُ عَدْنٍ: ہمیشہ رہنے کی جنتیں۔ عَدَن: یمن میں ایک شہر کا نام۔ العَدَنِی عدن سے منسوب، عمدہ اخلاق والا۔ المَعْدِن جمع مَعَادِن: ہر چیز کا منبع۔ (فلانٌ معدِنُ الخیر فلاں بھلائی کا منبع ہے) سونے، چاندی، لوہے وغیرہ کی کان۔ المِعْدَن: ہتھوڑا یا وہ اوزار جس سے پتھر نکالے اور توڑے جاتے ہیں۔ المُعَدِّن: (فا): کان کن، سونا چاندی نکالنے والا۔ التعدین دھاتوں اور دیگر معدنیات نکالنے ان کو صاف کرنے اور ان کو کام میں لانے کا علم، کان کنی کی صنعت۔

۲۔ عَدَن ــِ عَدْنًا الارضَ زمین میں کھاد ڈالنا۔ عَدَّن الارضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔

۳۔ عَدَن الشاربُ پینے والے کا سیر ہونا۔

۴۔ العَدَان: سمندر کا ساحل، دریا کا کنارا۔ العَدَانة جمع عَدَانات گروہ، کہتے ہیں۔ تانا عَدَاناتٌ: ہمارے پاس لوگوں کے گروہ آئے۔ العَدِینة: ڈول کا پیوند۔ العَیْدَانة جمع عَیْدَان: کھجور کا لمبا درخت۔

ⓒ عَدْن. عَدْن بہشت، جنت۔ عَدَن جنوبی عرب میں ایک شہر کا نام، مَعْدِن جمع مَعَادِن کان، کان میں کچی دھات کی پرت، دھات، معدنی چیز، معدنیات، دفینہ (Treasure trove)، خوشحالی، (مجازی): (جائے) اصل، سرچشمہ، منبع۔ علم المعادن معدنیات کا علم، ــــ کی اصلیت کی گہرائی میں جانا۔ معدنیات علم معدنیات۔ ماء معدنی معدنی پانی، سوڈا بوتل، مُعَدِّن کان کن۔ عَدْنان شمالی عربوں کا روایتی بزرگ۔

عدا ۱۔ عَدَا ــُ عَدْوًا و عَدَوَانًا و عُدُوًّا و تَعْدَاءً و عَدًا دوڑنا۔ ــ عَدْوًا و عُدْوَانًا علیه پر حملہ کرنا۔ عَادَی عِدَاءً و مُعَادَاةً بین الصَّیْدَیْن ایک دوڑ میں دو شکار مارنا۔ اَعْدَی الرجُلَ کو دوڑنے پر اکسانا۔ تَعَادَی القومُ ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرنا۔ ــ ت النوائبُ مصیبتیں پے در پے ہوئیں۔ اِسْتَعْدَی الفرسَ گھوڑے کو دوڑانا۔ العَادِیَة جمع عَوَادٍ: جنگ کے لئے تیار جماعت حملہ آور گھوڑے سوار۔ العَدَاء و العِداء ایک دفعہ کی دوڑ۔ کہتے ہیں۔ عَدَا الفرسُ عِدَاءً او عَدَاءً و اجدًا گھوڑے نے ایک دوڑ لگائی۔ العَدَّاء: تیز دوڑنے والا۔ اچھا دوڑنے والا۔ العَدْوَة: ایک مرتبہ کی دوڑ۔ العَدَوان: تیز دوڑنے والا۔ العَدِیّ: جنگ کے لئے تیار گروہ۔

۲۔ عَدَا ــُ عَدْوًا و عُدْوَانًا فلانًا عن الامر کو معاملہ سے باز رکھنا، کہتے ہیں۔ ــ عدا منك ما بدا تمہاری طرف سے جو کچھ ظاہر ہوا اس کے بعد تمہیں مجھ سے کس بات نے دور کیا۔ ــ الامرَ و عن الامر کو چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں عداطورَهُ او قَدْرَهُ: اس نے اپنے مرتبہ سے تجاوز کیا۔ ــــ عَدْوًا و عُدُوًّا و عَدَاءً و عُدْوَانًا و عِدْوَانًا و عُدْوَی علیه پر ظلم کرنا، سے زیادتی کرنا۔ عَدَا، ما مصدریہ کے ساتھ یا اس کے بغیر کلمہ استثناء ہے اور تمام احکام میں خلا کی مانند ہے۔ کہتے ہیں جاءَ القومُ عدا زیدًا و عدا زیدٍ نصب و جر کے ساتھ اور ماعدا زیدًا صرف نصب کے ساتھ آتا ہے۔ (زید کے سوا سب لوگ آئے) عَدِیَ ــ عَدًا له ن : سے بغض رکھنا۔ عُدِیَ علی فلان: پر ظلم کیا گیا، کا مال چوری کیا گیا۔ عَدَّی الشیٔ کو نافذ کرنا، کو جائز قرار دینا۔ ــــ عن الامر: کو چھوڑ دینا، (کہتے ہیں۔ عَدِّ عما تَرَی سے اپنی نگاہ ہٹا لے۔) ــ فلانًا عن الامر کو معاملہ سے باز رکھنا۔ الفعلَ فعل لازم کو متعدی بنانا۔ عَادَی عِدَاءً و مُعَادَاةً الشیٔ: کو دور کرنا۔ فلانًا سے جھگڑنا، کا دشمن ہو جانا اَعْدَی الامرَ معاملہ کی جانب دوسرے سے آگے بڑھنا۔ ــ علیه پر ظلم کرنا۔ فی کلامه گفتگو میں (کسی کے ساتھ) زیادتی کرنا۔ ــ ہ شرًّا کو نقصان پہنچانا۔ ــ ہ من عِلّة او خُلُق کو اپنی جیسی بیماری لگا دینا یا اپنی جیسی طبیعت کا عادی بنا دینا، کہتے

ہیں۔ قرینُ السوء یُعدی قرینَہٗ: بُرا ساتھی ہم نشین کو برا بنا دیتا ہے۔ تَعدَی الشیءَ: سے تجاوز کرنا۔ ـــ الشیَ الی آخر: ایک سے دوسری چیز تک جانا۔ تعَدَّی الفعلُ: فعل کا متعدی ہونا۔ ـــ علیہ: پر ظلم کرنا۔ تعادی الرجلُ: دور ہونا۔ ـــ المکانُ: جگہ کا ناہموار ہونا۔ ـــ القومُ: ایک دوسرے سے دشمنی کرنا، کہتے ہیں کہ تعَادَی القومُ اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک جیسی بیماری ایک کے بعد دوسرے کو لگ جائے۔ ـــ مابینهم: کے درمیان اختلاف ہونا فساد ہونا۔ إعتَدَی الحقَّ و عن الحقّ و فوقَ الحقِ: حق سے تجاوز کرنا، گویا معنی یہ ہے کہ حق سے گزر کر ظلم کرنے لگنا۔ ـــ علی فلان: پر ظلم کرنا۔ العَادِی (فا) جمع عُدَاۃ ظالم، حد سے بڑھنے والا، دشمن، چور، اُچکنے والا، شیر۔ عَادِی العوادِی: ایسے سخت ترین کام جو دوسرے کاموں سے باز رکھیں۔ العَادِیَۃ جمع عَوادٍ: عادی کا مونث، دوری، بُعد مشغولیت، سخت غصہ، غضب، طیش، عادِیۃُ السمّ: زہر کا ضرر کہتے ہیں۔ رفعتُ عنك عَادِیۃَ فلان: میں نے تجھ سے فلاں کا ظلم اور شر دور کر دیا۔ عَوادِی الدھر: زمانے کے موانع و گردشیں کہتے ہیں۔ صَرفَتْهُ عن کذا عوادٍ: موانع نے اس کو ایسے ایسے کاموں سے روک دیا۔ العَدَاء (مص): مشغولیت۔ دوری۔ العداوَۃ: دشمنی، دوری، العَدُوّ جمع اعداء و جمع أعادٍ: دشمن۔ العُدوَۃ: دور جگہ، العُدَوَاء: دوری، مشغولیت۔ عُدَوَاءُ الشوق: شوق کی تکلیفیں العدواءُ الشغل: کام کے موانع، کہتے ہیں۔ طالت عُدَوَاؤُھم: ان کا افتراق اور دوری بڑھ گئی۔ العُدْوَان: خالص ظلم، کہتے ہیں۔ لاعُدوان علیّ: میرے اوپر کوئی روک نہیں۔ العَدْوَی: فساد، خرابی، (طب) متعدی مرض۔ مرض کی بیمار سے صحت مند میں منتقلی، العِدَی: دور ہونے والے، پردیسی لوگ۔ جمع عَدُوّ: دشمن (جمع)۔ العُدَی عدو کا اسم جمع ہے۔ المَعْدَی: گزرگاہ کہتے ہیں۔ مالی عن فلان مَعْدًی: میرے لئے فلاں شخص سے گزر کر دوسرے تک جانے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ المَعْدِیّ مظلوم۔

۳۔ أعدی فلانًا علی فلان: فلاں کی فلاں کے خلاف مدد کرنا، اور تقویت دینا۔ اِستَعدَی الرَّجلَ: سے مدد طلب کرنا۔

۴۔ عَدَاءُ الوادی: وادی کا درمیان۔ العِدَاء و العُدْوَ: چھوٹا پتھر جس سے کچھ چھپایا جائے۔ العُدْوَۃ و العَدْوَۃ و العِدْوَۃ: جمع عِداء و عَدَوَات: بلند جگہ، وادی کا کنارہ اور جانب، العُدَوَاء: خشک اور سخت زمین۔ العِدَی: وادی کا کنارہ، چھوٹا پتھر جس سے کچھ چھپایا جائے۔ و العَدَی جمع أعْدَاء: کنارہ، جانب۔ العُدَی: بلند جگہیں۔ عَدِیّ قبیلہ۔

⊙ عدا ـ عَدْوًا: دوڑنا۔ ـــ ہ/ ہ او عن: کے پاس سے گزرنا، کو ترک کرنا، چھوڑنا۔ ـــ ہ: کو چھوڑ جانا، سے بچ کر نکل جانا، کی کترانا، کو چھوڑ دینا۔ ـــ ہ ب: سے کسی کا ناک میں دم نہ کرنا۔ کو سے مستثنیٰ کرنا۔ ـــ ہ: کے پار جانا، کو عبور کرنا۔ میں سے ہو کر گزرنا، کی حد سے بڑھنا، کی حد سے تجاوز کرنا، سے ماوراء ہونا، سے بلند تر ہونا۔ ـــ الی: کو چھوت لگانا۔ عدا ـ عَدْوًا و عُدُوًّا و عَدَاءً و عُدْوَانًا و عِدْوَانًا علی: کیخلاف جارحانہ، معاندانہ، کارروائی میں مشغول ہونا، پر جارحیت کرنا، کے خلاف معاندانہ اور مخالف کاروائی کرنا۔ پر ظلم کرنا، سے ناانصافی کرنا۔ پر حملہ کرنا۔ عدا عُدُوًّا ہ عن: کے لئے کسی کام میں روڑا اٹکانا، رکاوٹ ڈالنا، کو سے روکنا، کسی کام میں کی راہ میں حائل ہونا، کو سے روکنا، باز رکھنا۔ طَوْرَہٗ: اپنی حدود سے ماوراء اور بلند تر ہونا۔ لایعدو ان یفعله: کچھ کرنے میں ناکام نہ ہونا، کو لازماً کرنا۔ لایعدو ان یکون: یہ اس سے زیادہ نہیں، یہ صرف ...... ہے۔ عَدَّی: پار کروانا، حد سے بڑھنا، سے بڑھنا یا ماوراء اور بلند تر ہونا۔ ـــ ہ: کو دریا کے پار لے جانا۔ ـــ ہ: فعل لازم کو متعدی بنانا۔ ـــ ہ/ ہ یا عن: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ ـــ ہ: پار کرنا (جیسے دریا) عاداہ: کو دشمن سمجھنا، سے دشمن جیسا سلوک کرنا، کے بارے میں دشمنی ظاہر کرنا، کے خلاف جنگ کرنا، سے دشمنی کرنا، کیخلاف معاندانہ کارروائی کرنا۔ ـــ ہ/ ہ کا توڑ کرنا، دفعیہ کرنا، کی مخالفت کرنا۔ ـــ ہ: کی خلاف ورزی کرنا، کو توڑنا، کیخلاف کرنا۔ اعْدَی ہ من: کو کسی بیماری کی چھوت لگانا، کو کوئی بیماری منتقل کرنا۔ تعَدَّی ہ: کو پار کرنا، کے پار جانا، کی حد سے بڑھنا، کو قطع کرنا، میں سے ہو کر گزرنا، سے بڑھنا، تجاوز کرنا، سے بلند تر ہونا، سے ماوراء ہونا، سے بازی لیجانا، پر سبقت لیجانا۔ ـــ ہ الی: سے بڑھ کر پر متوجہ ہونا، تک محدود نہ رہنا بلکہ کسی اور چیز کو بھی شامل کر لینا، کو تک بڑھانا۔ ـــ ہ: سے آگے نکل جانا، کو پیچھے چھوڑ جانا۔ ـــ ہ: کو زیر کرنا، پر قابو پانا، پر غلبہ پانا، کو دور کرنا (جیسے بحران پر قابو پانا یا اسے دور کرنا)۔ ـــ الی: تک منتقل ہونا، پھیل جانا۔ ـــ ہ (قانون وغیرہ) کی خلاف ورزی کرنا، قانون توڑنا قانون کی حد سے بڑھنا۔ ـــ علی: کے خلاف، بہیمانہ اور معاندانہ کارروائی میں مشغول ہونا، پر جارحیت کرنا، کے خلاف ناانصافی سے کام لینا، پر حملہ کرنا، پر خواہ مخواہ وقت ضائع کرنا، تجاوز کرنا، تعدی علیہ بالضرب: سے ہاتھا پائی پر اتر آنا، کو ہتھیانا، پر اپنا قبضہ جمانا۔ تعادی: باہم دشمنی دل میں رکھنا، ایک دوسرے کے خلاف ہونا، دشمن ہونا۔ اِنعَدَی ب: کی بیماری لگ جانا۔ ـــ من سے متعدی مرض لینا۔ اِعْتَدَی ہ: کو پار کرنا، کے پار جانا، کی حد سے بڑھنا، سے ماوراء ہونا، سے بلند تر ہونا، سے بڑھ جانا، پر سبقت لیجانا، سے آگے نکل جانا۔ ـــ علی: کے خلاف اخلاق سوز، شرمناک، توہین آمیز، غیر قانونی اور بہیمانہ عمل کرنا، کے خلاف جارحانہ، بہیمانہ اور معاندانہ کارروائی میں مشغول ہونا، کے خلاف جارحیت کرنا، معاندانہ کارروائی کرنا، سے ناانصافی کرنا۔ ـــ علی: (عورت کی) عصمت دری کرنا، ـــ علی: پر حملہ کرنا، پر تجاوز کرنا۔ ـــ علی: پر قاتلانہ حملہ کرنا، استعدی ہ علی: سے کے خلاف مدد کی اپیل کرنا، کو کے خلاف اکسانا بڑھکانا۔ ماعدا یا فیماعدا: کے سوائے، کے سواء فیما عدا ذلك: بھی، کے علاوہ، مزید برآں، عَدْو: دوڑنا، دوڑ کا مقابلہ۔ عُدْوَۃ: پہلو، وادی کا نشیب، دریا کا کنارہ، یا پشتہ یا بند، ساحل۔ عَدُوّ جمع أعْدَاء و عِدیً و عُدیً و عُدَاۃ و أعَادٍم عَدُوَّۃ: دشمن عدو لَدُود (لَدِید، اَلَدّ) حریف، دشمن، بڑا دشمن، عَدُوَّۃ عَدُوّ کا مونث ـــ عَدِی: جارحیت پسند، عَدَاء: دشمنی، نفرت، سخت دشمنی، جارحیت، عَدَائی: معاندانہ، مخالفانہ، جارحانہ۔ عَدَّاء: دوڑنے والا، دوڑ میں مقابلہ کرنے والا۔ أعْدَی الأعْدَاء: بدترین دشمن۔ عَدْوَی: وبائی مرض، متعدی مرض، چھوت، عُدْوَی: جارحانہ کارروائی۔ عَدَاوَۃ جمع عداوات: دشمنی، نفرت، سخت دشمنی اور نفرت۔ عُدَوَاء: رکاوٹ، مزاحمت، تکلیف، تکلیف دہ شخص، کام یا چیز، شکست، ہزیمت۔ ذو عُدَوَاء: ناہموار، کھردرا، مخالف ناموافق، نامساعد، پریشان کن، تکلیف دہ، عُدْوَان: دشمنی، نفرت، مخالفت، معاندانہ کارروائی، جارحیت۔ مَعْدًی: بچنے کا ذریعہ، نجات، چھٹکارا، احتراز، گریز، نکلنے کا راستہ، لامعدی عنہ: اٹل، ناگزیر، ہو کر رہنے والا۔ مَعْدِیَۃ جمع مَعَادٍ: گھاٹ، گھاٹ کی کشتی تعدیۃ: گھاٹ کی کشتی میں جانا یا لیجانا، پار جانے لیجانے کی کشتی یا کشتیاں۔ فعل کو متعدی بنانا۔ تَعَدٍّ: پار کرنا، حد سے بڑھنا، بڑھنا، ماوراء یا بلند تر ہونا، کار وغیرہ کا آگے نکلنا جمع تَعَدِّیَات: خلاف

ورزی، قانون شکنی، ــ علی: پر تجاوز، قانون کی خلاف ورزی، ہرجانے کی عدم ادائیگی کا جرم، حملہ، جارحیت إعْتَداء جمع إعتداء ات علی: پرحملہ، پر قاتلانہ حملہ، پر مجرمانہ حملہ، کی شرمناک بے حرمتی، کے خلاف جارحیت۔ معاهدة (اتفاق) عدم الاعتداء: عدم جارحیت کا معاہدہ، عادٍ جمع عَوَادٍ: جارح، حملہ کرنے والا جمع۔ عُدَاة: دشمن عَوَادِیُ الوحوش: درندے، عَادِیَة جمع عَادِیَات و عَوَادٍ: ظلم، جرم، انتہائی ظلم، آفت، مصیبت، ادبار، بدقسمتی، بدنصیبی، بدبختی، شکست، رکاوٹ، جمع عادیات و عواد: نشیب و فراز، عَدَتْ علیهم عواد: تقدیر نے انہیں بہت چرکے لگائے، انکے برے دن آگئے۔ مُعَادٍ: معاند، مخالف، دشمن، خطرناک، مخالفانہ، معاندانہ، مُعْدٍ: متعدی، چھوت والی وبائی، أَمْرَاضٌ مُعْدِیة: متعدی چھوت والی بیماریاں۔ مُتَعَدٍّ: فعل متعدی، جارح، حملہ آور۔ مُعْتَدٍ جمع مُعْتَدُون: حملہ کرنیوالا، حملہ آور، جارح، جارحیت پسند۔

عذب: ا۔ عَذَبَ ـِ عَذْبًا: پیاس کی شدت سے کھانا کھانا چھوڑ دینا صفت عَذُوب و عَاذِب۔ ــ ہٗ: کو روکنا۔ ــ عنه: سے باز رہنا۔ عَذَّبَ ہٗ: کو عذاب دینا۔ تکلیف دینا، ایذا دینا۔ ــ ہٗ عن الشیٔ: کو سے منع کرنا، روکنا۔ ــ الشیٔ: کو روک لینا۔ اَعْذَبَ عنه: سے باز رہنا۔ ــ ہ عن الامر: کو سے منع کرنا۔ کہتے ہیں۔ أَعْذِب نفسك عن كذا: اپنے آپ کو اس سے روکو۔ استعذب عن كذا: سے باز رہنا۔ العَاذِب من الدوابّ جمع عُذُوب: وہ جانور جو کھڑا ہو اور کھاتا پیتا نہ ہو۔ العَذَاب جمع أَعْذِبَة: ہر وہ شے جو انسان کیلئے باعث مشقت ہو اور اسے اپنی مراد سے باز رکھے۔ العَذُوب من الدوابّ: پیاس کی شدت کی وجہ سے چارہ ترک کر دینے والا جانور۔

٢۔ عَذَبَ ـِ عَذْبًا و عَذَّبَ السوطَ: کوڑے میں پھندا لگانا۔ إعْتَذَبَ: عمامے کے دو شملے لٹکانا۔ العَذَب واحد عَذَبَة: کوڑے کے تسمے، ترازو کی زبان، درخت کی شاخیں، ہر شے کے اطراف، عمامہ کا شملہ۔

٣۔ عَذِبَ ــ عَذَبًا الماءُ: پانی کا کائی دار ہونا صفت عَذِب۔ أَعْذَبَ الماءَ: پانی سے کائی اور تنکے نکال پھینکنا۔ العَذَب (مص) واحد عَذَبَة: تنکا۔ العَذَبَة جمع عَذَبات: تنکا۔ العُذْبَة و العَذِبَة: کائی۔

٤۔ عَذُبَ ـُ عُذُوبَةٌ و إعْذَوْذَبَ الشرابُ: میٹھا اور خوشگوار ہونا۔ أَعْذَبَ: میٹھے پانی پر پہنچنا۔ ــ القومُ: قوم کا میٹھے پانی والا ہونا۔ ــ اللّٰهُ الماءَ: اللہ تعالیٰ کا پانی کو میٹھا کرنا۔ إسْتَعْذَبَ: میٹھا اور خوشگوار پانی طلب کرنا یا پینا۔ کہتے ہیں۔ خَرَجَ يستعذب الماءَ: میٹھا پانی لانے کیلئے جانا۔ ــ الشیٔ: کو میٹھا اور خوشگوار پانا۔ العَذْبُ: خوشگوار پانی اور کھانا۔ ماءٌ عَذْبٌ: میٹھا پانی۔

٥۔ العاذِب جمع عُذُوب و العَذُوب: وہ شخص جس کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔

○ مياه عَذْبة: تازہ پانی۔ عَذْبُ الحديث: دلچسپ، ملنسار یا ساتھی بننے کے لائق، خوبرو، عَذَاب جمع عَذَابات و أَعْذِبَة: تکلیف، ایذاء، اذیت، درد و کرب، سزا، تادیب، سرزنش، گوشمالی، عُذُوبہ۔ مٹھاس۔ اَعْذَب: زیادہ میٹھا، زیادہ خوشگوار، زیادہ عمدہ عذج: عَذَجَ ــِ عَذْجًا الماءَ: پانی پینا۔ ــ فلانًا: کو گالی دینا۔ المِعْذَج: عزت مند، بد اخلاق، بہت ملامت کرنے والا۔

عذر: ا۔ عَذَرَ ــِ عُذْرًا و عُذُرًا و عُذْرَی و مَعْذُرَةً و مَعْذِرَةً ہٗ علی او فی ماصنع: کو پر معاف کرنا، کو بری الذمہ قرار دینا، کا عذر قبول کرنا، عَذَّر: عذر ثابت نہ ہونا۔ ــ ہٗ: سے عذر کرنے میں مبالغہ کرنا۔ عَاذَرَ مُعَاذَرَةً: کا عذر ثابت نہ ہونا۔ اَعْذَرَہ فی او علی ماصنع: کو پر معاف کرنا، کو الزام سے بری کرنا۔ ــ الرجُلُ: عذر ظاہر کرنا۔ ــ من نفسه: ایسا کام کرنا جس پر اس کو معاف کیا جاسکے ضرب المثل ہے: أَعْذَرَ من أَنْذَرَ: جس نے تمہیں کسی ایسی مصیبت سے خبردار کیا ہو جو تم پر آنے والی ہو تو وہ آپ کے نزدیک معذور ہو گیا، انصاف کرنا۔ تَعَذَّرَ الرجُلُ: خود کو بے گناہ ثابت کرنا۔ ــ فلانٌ من الذنب: کی ذمہ داری سے انکار کرنا۔ إعْتَذَرَ عن و من فعله: سے معذوری ظاہر کرنا۔ عن فلان: کا عذر قبول کرنے کی درخواست کرنا۔ ــ الرجُلُ: معذور ہونا، قابل معافی ہونا۔ ــ اليه: کو عذر پیش کرنا۔ إسْتَعْذَرَ اليه: کو عذر پیش کرنا۔ العُذْر جمع أعذار: عذر، معذرت، اعتذار، العِذْرَة ج عِذَر، العُذْرَی: عذر، معذرت، اعتذار۔ العَذِیْر جمع عُذُر م عَذِیرَة: معذرت کرنے والا، عذرخواہ۔ المَعْذَرَة و المَعْذُرَة و المَعْذِرَة جمع مَعَاذِر و المِعْذَار جمع مَعَاذِیر: عذر، معذرت، اعتذار۔

٢۔ عَذَرَ ـُ عَذْرًا و عُذُرًا الفرسَ بالعِذار: گھوڑے کے پوری لگانا، گھوڑے کو لگام دینا۔ عَذَّرَ الغلامُ: لڑکے کے رخسارہ پر سبزہ اگنا، لڑکے کی مسیں بھیگنا۔ اَعْذَر الفرسَ: گھوڑے کے پوری لگانا، گھوڑے کو لگام دینا۔ العاذُور جمع عَوَاذِیر: علامت، العِذار جمع عُذُر: پوزی، رخسارے پر کان کے مقابل بال رخسار، حیا، کہتے ہیں۔ خَلَعَ عِذَارَہٗ وهو خليع العِذار: اس نے شرم و حیا تار پھینکی ہے۔ لوی عذاره عنه: اس نے اس کی نافرمانی کی۔ ــ من النصل: تیر کے پھل کی دونوں طرف کی دھار۔ العُذْرَة: دوڑنے والی گھوڑے کو نظر لگنے سے بچانے کے لئے اس کی پیشانی پر باندھا جانے والا نشان۔ بالوں کا گچھا، گھوڑے کی گردن کے بال، پیشانی۔

٣۔ عَذَرَ ـُ عَذْرًا و عُذْرًا الصبیَّ العاذورُ: بچے کو گلے کی تکلیف ہونا۔ عُذِرَ الصبیُّ: بچہ کو گلے کا درد ہونا۔ اَعْذَرَہٗ فی ظهره: کو مار کر بدھی ڈال دینا، کہتے ہیں۔ ضَرَبَهٗ حتّٰی اَعْذَرَ مَتْنَهٗ: اس نے اُسے اتنا مارا کہ پیٹھ پر زخم کے نشان ڈال دیئے۔ ــ بفلان: پر زخم کا نشان چھوڑنا، کہتے ہیں۔ ضُرِبَ فلانٌ فاُعْذِرَ: کو مارتے مارتے ہلاکت کے قریب پہنچا دیا گیا۔ العَاذِر (فا): زخم کا نشان، العَاذُور جمع عَوَاذِیر والعُذْرَة جمع عُذَر (طب): حلق کی بیماری۔ العَذِیرة: زخم کا نشان۔

٤۔ عَذَرَ ــِ عَذْرًا و أَعْذَرَ الغُلامَ: لڑکے کی ختنہ کرنا۔ العِذَار: ختنہ یا تعمیر کا کھانا۔ العُذْرَة جمع عُذَر: ختنہ کی کھال، الاِعْذَار (مص): خوشی کے موقع پر پکایا جانے والا کھانا۔ العَذِیرَة: کسی نئی چیز سے استفادہ پر دیا جانے والا کھانا۔

٥۔ عَذَرَ ــِ عَذْرًا و عُذُرًا: کے گناہوں کا زیادہ ہونا۔ اَعْذَرَ: کے گناہوں کا زیادہ ہونا۔

٦۔ عَذَّرَ فی الامر: کوشش کے بعد کسی معاملہ میں کوتاہی کرنا۔ أَعْذَرَ فی الامر: کسی معاملہ میں کوتاہی کرنا اور کوشش نہ کرنے کے باوجود کوشش والا سمجھنا۔ تَعَذَّر عن الامر: سے پیچھے ہٹنا۔ ــ علیه الامرُ: پر دشوار ہونا، باز رہنا۔ العُذْرَة: بکارت، خواہش، العُذْرِی: پاک دامن۔ العَذْرَاء جمع العَذَارَی و العَذَارِی و العَذْرَاوَات: باکرہ۔ درناسفتہ، حضرت مریمؑ کا لقب۔

٧۔ عَذَّرَ الدارَ: گھر کے نشانات مٹانا۔ تَعَذَّرَ و إعْتَذَرَ الرسمُ: نشان کا مٹ جانا۔

٨۔ أَعْذَرَتِ الدارُ: گھر کا بہت پلید ہونا۔ تَعَذَّر الشیُّ: پلیدگی سے لتھڑ جانا۔

العَاذِرَة: پاخانہ، العَذِرَة جمع عَذِرات: پاخانہ، کھانے کا ردی حصہ مکان کا سامنے کا حصہ۔

٩۔ تَعَذَّرَ: فرار ہو جانا، بھاگ جانا۔

۱۰۔ العذر جمع أعذار غلبہ، کامیابی، جنگ کے موقع پر کہا جاتا ہے (لمن العُذر؟) کس کے لئے غلبہ ہے؟ (کون غالب ہوا) کہتے ہیں۔ هو ابو عُذرِ هذا الکلام: وہ اس کلام میں پہلا بولنے والا ہے۔ العُذرۃ جمع عُذر ایک ستارہ کا نام ہے جس کے نکلنے سے گرمی بڑھ جاتی ہے۔ العذیر جمع عُذُر و عُذیرۃ۔ مددگار۔

⊙ عذر ۔ عُذرًا و مَعذِرَۃً کو معاف کرنا، کو جرم سے بری کرنا۔ ۔ ہ فی / عن کو اس کا کوئی فعل معاف کر دینا۔ لم ۔ عذرنی وہ مجھے کوئی معذرت پیش نہیں کرنے دیتا تھا، وہ کسی سوال کا "نہ" میں جواب قبول نہ کرتا تھا، واصرار کرتا رہا۔ عذر ۔ عذراہ ۔ کی ختنہ کرنا۔ أعذر بمعنی عذر نیز عذر رکھنا۔ أعذر من انذر: جو وارننگ دے وہ قابل معافی ہے۔ تعذّر علی پر مشکل ہونا، ناممکن ہونا، ناقابل عمل ہونا۔ اعتذر لـ ن من سے کیلئے معذوری ظاہر کرنا، سے کیلئے معذرت کرنا، عذر خواہی کرنا۔ ۔۔۔ ب۔ کچھ بطور عذر پیش کرنا۔ عن ۔ من ۔ کیلئے، عذر پیش کرنا۔ (پا کے دفاع میں۔) إستعذر معذرت طلب کرنا۔ معذرت پیش کرنا۔ عُذر جمع أعذار عذر معذرت اعتذار ابو عُذر: کا ذمہ دار، کیلئے جواب دہ۔ هو ابو عُذر هذا التطور وہ اس ترقی کا موجد یا مخترع ہے۔ عُذرۃ پاکدامنی، عصمت، عفت، پاکیزگی۔ ایک عرب قبیلہ کا نام عذری عذرہ قبیلہ سے متعلق الهوی العُذری پاک محبت (Platonic love)۔ عِذار جمع عُذر رخسار، رونگٹیں، رخساروں پر سبزہ کا آغاز۔ گھوڑے کے گالوں پر کی پوری خلع عِذارہ پابندی اتار پھینکنا، شرم و حیا کے سب جھوٹے وعدے ترک کر دینا۔ خالع العذار جسے کوئی روک ٹوک نہ ہو، بے قابو، آوارہ باش، بلا پابندی۔ فتاۃ عَذراء کنواری لڑکی، دوشیزہ، ناکتخدا عورت۔ تعذّر دشواری، مشکل، ناممکن بات، امر محال، ناقابل عمل ہونا، ناممکن ہونا، مُتعذِّر مشکل، ناممکن، ناقابل عمل۔

عذف ا۔ عَذَفَ ۔ عَذفًا من الطعام: کھانے میں سے کچھ کو چکھنا۔ تعذّف الطعام: کھانا کھانا، کہتے ہیں۔ ما ذقت عَذفًا و لا عَذوفًا و لا عُذافًا: میں نے کوئی چیز نہیں چکھی۔

۲۔ العُذافِرۃ جمع عَذافِر مضبوط اونٹ۔ العذوفر مضبوط اونٹ۔

عذق ا۔ عَذَقَ ۔ عَذقًا فلانًا بشرٍ پر تہمت لگانا۔ ہ الی کذا کو سے منسوب کرنا۔ و أعذق الشاۃ بکری کے رنگ کے خلاف کسی اور رنگ کی اون سے نشان لگانا۔ اِعتذقہ بکذا کو کسی چیز کے ساتھ مخصوص کرنا۔ العَذقۃ و العِذقۃ: بکری کے رنگ کے خلاف رنگ کی اون وغیرہ کا نشان جو اس پر لگایا جاتا ہے۔

۲۔ عذق ۔ عَذقًا و عَذَقَ النخلۃ: کھجور کے درخت کی شاخ کاٹنا۔ اِعتذق: پگڑی کے دو شملے پیچھے کی طرف لٹکانا۔ العِذق: شاخوں والی ٹہنی۔ عزت کہتے ہیں فی بنی فلان عِذقٌ کهلٌ: بنی فلاں میں انتہائی عزت ہے۔ جمع عُذوق و أعذاق (ن)۔ کھجور کا درخت جو کھجوروں سے لدا ہوا ہو۔ کھجور کا خوشہ۔ انگور کا گچھا۔ العاذق (فا) جمع عاذقون و عُذّاق کھجور کے درخت کی حفاظت اور خدمت کرنے والا۔

۴۔ العَذِق: ہوشیار، چرب زبان۔ طیبٌ عَذِق۔ تیز خوشبو۔

⊙ عِذق جمع أعذاق (کھجوروں، انگوروں کا) گچھا، خوشہ)۔

عذل ا۔ عَذَلَ ۔ عَذلاً و عَذَّلَہُ: کو ملامت کرنا، صفت عاذِل جمع عُذَّل و عُذّال و عَذَلۃ و عاذلون م عاذلۃ جمع عَواذِل و عاذلات۔ تعذّل و اِعتذل اپنے آپ کو ملامت کرنا، ملامت زدہ ہونا۔ تعاذل القوم ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ العَذل و العَذَل والتعذال ملامت۔ العُذلۃ و العَذّال و العَذول: بہت ملامت کرنے والا۔ العَذّالۃ: عَذّال کا مونث، بہت ملامت کرنے والا۔ المُعذَّل (مفع) فیاضی کی بنا پر ملامت شدہ۔

۲۔ اِعتذل الیومُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ ایام عُذَّل و مُعتذِلات: سخت گرم دن۔

۳۔ اِعتذل الرجلُ علی الشیء کا پختہ ارادہ کرنا۔

۴۔ العَذالۃ: سرین

۵۔ عَذلَجَ السِقاءَ: مشکیزہ بھرنا۔ الولدَ و غیرہُ: لڑکے وغیرہ کو اچھی غذا دینا۔ عیشٌ عِذلاج: خوشگوار زندگی۔ العُذلوج: اچھی غذا سے پرورش پانے والا بچہ۔ المُعَذلَج م مُعذلَجۃ پر گوشت خوبصورت جسم والا۔

⊙ عَذَلَ ۔ عَذلاً ہ۔ کی عیب جوئی کرنا، کو الزام دینا، کو قصور وار ٹھہرانا، کو ملامت کرنا، پر الزام لگانا، کو جھاڑ جھپاڑ کرنا، کی سرزنش کرنا، کو ڈانٹنا، کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، پر ملامت کرنا۔ عَذَل: بمعنی عَذل۔

عذم: عَذَمَ ۔ عَذمًا الفرسُ گھوڑے کا کاٹ کھانا۔ عَذِمَ ۔ عَذمًا ہُ کو گالی دینا۔ العَذوم جمع عُذُم و العَذّام: بہت کاٹ کھانے والا۔

۲۔ عَذَمَ ۔ عَذمًا عن الرجلِ اپنا دفاع کرنا۔ أعذمہُ عن نفسہ: کو اپنے آپ سے روک دینا۔

۳۔ عَذَمَ ۔ عَذمًا ہُ کو ملامت کرنا۔ العَذوم جمع عُذُم و العَذّام، بہت ملامت کرنے والا۔ العَذیمۃ جمع عَذائم ملامت۔

۴۔ العَذیمۃ جمع عَذائم اس کھجور کا درخت جس میں گٹھلی نہ ہو۔

عذا عذا یعذو عَذوًا و عَذِیَ یعذی عَذًی و عَذوَ یَعذو عَذاوۃً المکانُ جگہ کا اچھی ہوا والا ہونا۔ پانی اور وبائی امراض سے دور ہونا۔ اِستعذی المکان جگہ کو اچھی ہوا والا سمجھنا۔ ارضٌ عاذِیۃٌ و عَذِیۃٌ و عَذیّۃٌ و عَذاۃٌ: عمدہ آب و ہوا والی زمین۔ العِذیُ جمع أعذاء: بارانی کھیت، بارانی فصل۔

⊙ عَذا ۔ُ عَذِیَ ۔ عذوا و عَذًی (ملک، شہر وغیرہ کا اپنی آب و ہوا وغیرہ کی بنا پر) صحت بخش ہونا۔

عرّ ا۔ عَرَّ ۔ عَرًّا و عُرَّ الجملُ اونٹ کا خارش زدہ ہونا صفت عَرٌّ و عُرٌّ و عارٌّ و مَعرورٌ۔ عَرّاہُ کو غمگین کرنا۔ ہُ بشرّ کو برائی سے ملوث کرنا۔ عارّ مُعارّۃً و عِرارًا ہ سے لڑنا، کو ایذا دینا۔ اِستعرّهم الجربُ لوگوں میں کھجلی کا پھیل جانا، خارش کا پھیل جانا۔ العارور و العارورۃ گندہ اور منحوس آدمی۔ قوم پر ذلت و رسوائی لانے والا۔ العَرّ کھجلی والا، کھجلی، عیب، برائی۔ العُرّ کھجلی۔ العَرّۃ: اسم مرۃ، بری عادت، عیب، جنگ کی شدت۔ العُرّۃ کھجلی، ناگوار بات کا پیش آنا، گناہ، جرم۔ العُرار: گناہ، سنگین جرم۔ العَرار: قصاص، خون کا بدلہ۔ العَرارۃ بد خلقی، سختی۔ العَرَر و العُرور کھجلی، خارش، الأعرّ م عرّاء جمع عُرٌّ خارش زدہ (مخصی یا اونٹ)۔ المَعَرّۃ: گناہ، ایذا، بدی، عیب، بری بات۔ ۔ (فلک) ستارہ (کہکشاں کے علاوہ) سختی، گالی، جرمانہ۔ مَعَرّۃ الجیش وہ لشکر جو نادانی سے قوم کی کھیتی کھا لے۔

۲۔ عَرَّ ۔ عَرًّاہُ کے پاس سائل بن کر آنا۔ اعترّ اِعترارًاہ و اِعتراہ: بغیر سوال کے کسی کے پاس بخشش کیلئے آنا۔ المُعترّ بغیر سوال کئے بخشش کے در پے ہونے والا۔ فقیر۔

۳۔ عَرَّ ۔ عَرًّا الارضَ زمین میں کھاوڈالنا۔ عَرّر الارضَ: زمین میں کھاوڈالنا۔ اعرّتِ الدارُ گھر کا گندہ ہونا۔ العُرّ پرندہ کی بیٹ۔ العُرّۃ۔ گوبر، لید، مینگنی، پرندے کی بیٹ۔

۴۔ عَرَّ ۔ عِرارًا و عارَّ مُعارّۃً و عِرارًا الظلیم: شتر مرغ کا چیخنا۔

۵۔ تعارَّ نیند میں بولتے ہوئے بیدار ہونا۔ العُرَّة جنون کہتے ہیں۔ به عُرَّةٌ یعنی اس کو جنون ہے۔

۶۔ العَارُور و العَارُورَة بے کوہان کا اونٹ العَرّ وہ بچہ جس کا دودھ جلد چھڑا دیا گیا ہو۔ العَرَّة عَرّ کا مونث۔ العُرّ لڑکا۔ العُرَّة لڑکی، کوہان کی چربی۔ العَرَّاء لڑکی۔ العَرار (واحد عَرارة) ایک پھول جسے گاؤ چشم کہتے ہیں۔ جنگلی نرگس۔ العرارة (ح) نڈی۔ بلندی۔ سردار کا اختیار۔ العریر اجنبی۔ المَعَرَّة غصہ سے چہرے کا رنگ بدل جانا۔ ایک شہر کا نام۔

۷۔ عرعرَ القارورة شیشی بند کرنا۔ شیشی کو کارک لگانا، شیشی کے کارک کو علیحدہ کرنا۔ نکالنا۔ ـــ العین آنکھ پھوڑ دینا۔ العَرْعَرَةُ جمع عرَاعِر شیشی کا کارک۔ العُرْعُرَة جمع عَرَاعِر شیشی کا کارک۔ عُرْعُرَةُ الجبل پہاڑ کی چوٹی۔

۸۔ العُرعُر بدخلقی، کہتے ہیں۔ رکب عُرعُرہ وہ بدخلق ہوگیا۔ العَرْعَر (ن) ایک درخت سرو کے مانند۔ اس کا پھل الکحلی مشروبات کو خوشبودار بنانے کے لئے اور لکڑی جلدی امراض کی دواء بنانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ العُرَاعِر جمع عَرَاعِر شریف، سردار۔ ـــ من الابل موٹا اونٹ۔

◯ عَرَّ ـُ ہ ا ہ کیلئے رسوائی ہونا، فضیحت ہونا، موجب رسوائی، شرمناک بات ہونا، کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، کیلئے موجب رسوائی ہونا۔ عُرّہ کھجلی، خارش، خارشت، گوبر، شرمناک، موجب رسوائی چیز۔ عَرَر کھجلی خارش، خارشت۔ مَعَرَّة رسوائی، شرمندگی، بے عزتی، فضیحت، ذلت، داغ، دھبا، بدنامی، کلنک کا ٹیکہ، دامن پر داغ۔ مُعْتَرّ سخت غمزدہ، سخت بری حالت میں، بد نصیب، بدبخت، مصیبت زدہ، خراب تکلیف دہ، بدذات، بے اصول شخص، دھوکے باز، ٹھگ، شریر بچہ۔

عرب ۱۔ عَرَبَ ۔ عَرْبًا الطعام کھانا کھانا۔

۲۔ عَرُبَ ۔ عُرُوْبَةً و عُرُوبِيَّةً و عَرَابَةً و عَرَبًا و عُرُوبًا فصیح عربی بولنا، فصیح عربی ہونا۔ عرِبَ ـــ عَرَبًا الرجلُ لکنت کے بعد فصیح ہونا۔ عَرَّبَ المنطق کو اعرابی غلطی سے پاک کرنا۔ ـــ الکتاب و نحوہٗ کتاب وغیرہ کو اجنبی زبان سے عربی زبان میں نقل کرنا، کا عربی میں ترجمہ کرنا۔ ـــ عنہ لسانُہٗ فصیح ہونا، مراد کو ظاہر کرنا۔ ـــ عن صاحبہ اپنے ساتھی کی طرف سے بولنا اور اس کی براءت کرنا، کے لئے جواز پیش کرنا۔ ـــ بحُجَّتہ دلیل کو اچھی طرح بیان کرنا۔ ـــ الرجلُ عربی گھوڑا لینا۔ ـــ الاسم الاعجمیَّ عجمی نام کو عربی بنانا۔ أَعْرَبَ کلامَہٗ بات فصاحت سے کرنا، اور غلطی نہ کرنا۔ ـــ الشیْٔ کو ظاہر کرنا۔ ـــ عن حاجتہ کو صاف بیان کرنا۔ ـــ بالکلام بیان کرنا۔ ـ بحجتہ عمدہ دلیل بیان کرنا ـــ الکلمة پر اعراب لگانا۔ ـ الفرسَ العربیَّ ہنہنانے سے عربی گھوڑے کو غیر عربی گھوڑے سے ممتاز کرنا۔ ـــ الاسم الاعجمیَّ عجمی نام کو عربی بنانا۔ ـ الرجُلُ عربی گھوڑوں یا اونٹوں کا مالک ہونا، اچھا عربی اسلوب استعمال کرنا۔ تعَرَّبَ عربی اخلاق اختیار کرنا۔ اہل عرب کی مشابہت کرنا۔ دیہات میں قیام کرنا۔ اعرابی بننا۔ اِسْتَعْرَبَ عربوں میں داخل ہونا۔ العُرْب و العَرَب جمع أعْرَاب و عُرُوب بحر احمر کے مشرق میں جزیرہ نما عرب کی ایک پود۔ غیر عجمی، غیر عجمی سے یہاں مراد ہر وہ شخص ہے جو عرب نہیں، جیسے اہل فارس، ترك یوروپین و غیرھم العَرَبُ العَرْباء والعَارِبَة والعَرِبَة و العَرَبِيَّة خالص عربی لوگ، لفظ اس مقام پر بتاویل طائفہ مونث ہے۔ العَرَبُ المتعَرِّبَة والمُسْتَعْرِبَة وہ غیر ملکی جو عرب میں آباد ہوئے۔ رَجُلٌ عَرِبٌ فصیح عربی زبان والا مرد۔ خیلٌ او ابلٌ عِرابٌ و أعْرُبٌ اصیل عربی گھوڑے یا اونٹ۔ العُرْبان: عرب۔ رجُلٌ عَرْبان فصیح زبان والا مرد۔ رجُلٌ عَرْبَانيُّ اللسان فصیح عربی زبان والا مرد۔ العَرَبِيّ خالص عرب کا باشندہ اگرچہ کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو۔ العَرَبِيَّة عَرَبِي کا مونث عربی زبان جسے عرب بولتے ہیں العُرُوبِيَّة اصلی عربوں کی حالت اور خصوصیات۔ الأَعْراب بدو عرب دیہات کے رہنے والے واحد أعْرابی۔ الأعْرابی بدوی، ریگستان عرب کے خانہ بدوش۔ الأَعْرابِيَّة اعرابی کی حالت جیسے خانہ بدوشی، بدویت کہتے ہیں۔ ھو اعْرَبهم احسابًا: وہ حسب کے اعتبار سے ان سب میں خالص ترین ہے۔ واعربھم ألْسِنَةً اور زبان کے لحاظ سے خالص ترین۔ الاسم المُعَرَّب وہ نام جسے عربوں نے عجمیوں سے نکرہ لیا ہو جیسے ابریسم، عربی بنایا ہوا نام۔

۳۔ عَرِبَ ـ عَرَبًا بگڑے ہوئے معدے والا ہونا۔ ـــ ت المعدةُ معدہ خراب ہونا۔ الجرحُ زخم کا سوجنا اور اس میں پیپ پڑ جانا۔ معدةٌ عَرِبَة خراب معدہ۔

۴۔ عَرِبَ ـ عَرِبَت البئرُ کنویں میں بہت پانی ہونا۔ العَرَبُ والعَرْبُ من الماء بہت اور صاف پانی۔ بئرٌ عَرِبَة بہت پانی والا کنواں۔

۵۔ عَرَّبَ علیہ عملَہٗ کو اس کے فعل کی غیر معقولیت بتانا۔ ـــ قولَہٗ کا قول اس پر لوٹانا اور اسے غلط ثابت کرنا۔ ـــ الرجُلُ فحش بات کہنا۔ أعْرَبَ الرجلُ فحش بات کہنا۔ اسْتَعْرَبَ فحش بات کہنا۔ العَرابة والعِرابة فحش گوئی۔

۶۔ أَعْرَبَ الفرسَ گھوڑے کو دوڑانا۔ العَرِبَة جمع عَرِب وعَرِبات تیز بہنے والا دریا۔ العَرِبات وہ کشتیاں جو بغداد میں بندھی رہتی تھیں۔ (جن سے پل کا کام لیا جاتا تھا) آج کل بگھی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

۷۔ عَرَّبَ و أعْرَبَ المشتری خریدار کا بیعانہ دینا۔

۸۔ العَرَبَة جمع عَرَب وعَرَبات نفس

العَرَّاب م عَرَّابَة عند النصاری وہ شخص جسے بتسمہ دیے ہوئے شخص کا باپ بنایا جاتا ہے۔ عَرَّابَة وہ عورت جو ماں بنتی ہے۔ العَرُوب والعَرُوبَة من النساء بہت ہنسانے والی عورت۔ شوہر کی نافرمانی عورت۔ عَرُوبَة ویوم العَرُوبَة جمعہ کا دن، کہتے ہیں۔ ما بالدار مُعْرِبٌ او عَرِيبٌ گھر میں کوئی نہیں ہے۔

۹۔ عَرْبَدَ عَرْبَدَةً: بدخلق ہونا صفت عِرْبِيدٌ ومُعَرْبِدٌ العِرْبد والعِرْبَدّ: سخت چیز (کہتے ہیں۔ غضب غضبًا عِرْبِدًا: وہ سخت غضبناک ہوا)۔ (ح) نر سانپ۔

۱۰۔ عَرْبَنَ ہٗ: کو بیعانہ دینا۔ العُرْبان والعُرْبُون والعَرَبُون جمع عَرابين: بیعانہ عام لوگ رَعْبُون کہتے ہیں۔

◯ عَرَّبَ ہ ہ کو عربی بنانا۔ ـــ ہ کو عربی میں ترجمہ کرنا۔ ـــ عن کو ظاہر کرنا، کا اظہار کرنا، وضاحت سے بیان کرنا، کا اعلان کرنا۔ ـــ سائی دینا، بیعانہ دینا۔ زر پیشگی دینا، أعرب ہ ہ کو عربی بنانا۔ ہ کو عربی شکل دینا۔ ـــ عن کو واضح کرنا۔ وضاحت سے بیان کرنا، کا اعلان کرنا۔ کو صاف اور غلطی کے بغیر ظاہر کرنا۔ کا اظہار کرنا، کو زبان سے نکالنا، بولنا، گننا، کا باضابطہ اعلان کرنا۔ تعَرَّب اپنے آپ کو عربوں میں سمو لینا، عرب بن جانا، عربوں کے رسم و رواج اختیار کرنا۔ استعرب بمعنی تعَرَّب۔ عرب: (اسم جنس) جمع عُرُوب و أَعْرُب و عُرْبان و أعراب عرب، خالص عرب، ریگستان کے عرب بدو۔ عربی عَرَب، عربی، خالص عربی ایک عرب۔ العَرَبِية: قدیم عربوں کی زبان۔ کلاسیکل یا ادبی (کتابی) عربی۔ عَرَبَة تیز رو دریا۔ جمع عربات گاڑی گھوڑا گاڑی۔ ویگن (Wogon) چھکڑا، بیل گاڑی، ریل گاڑی کا ڈبہ کوچ (Coach) عَرَبَةُ الاجرة: بگھی

ٹیکسی، Cab کرائے کی گاڑی (Hack hockney)عربة الاکل: ریل گاڑی میں کھانے کا ڈبہ (Diner, dining car)عربة رَشَ: پانی کی گاڑی، پانی چھڑکنے والی گاڑی۔ عربة الرکوب: ٹیکسی، کرائے کی گاڑی۔ عربة الشَحن: ویگن، لوری Lorry، بار برداری کی گاڑی، مال گاڑی۔ عربة مطعَم: ریل گاڑی میں کھانے کا ڈبہ۔ عربة الاطفال: بچہ گاڑی۔ عربة النقل: ویگن، لوری (lorry) وین، مال گاڑی۔ عربة النوم: سونے والا ڈبہ (Sleeper, Sleeping car)) عربةُ ید: ہاتھ گاڑی۔ عَرَبیة: گاڑی، کوچ۔ عَرَبجی جمع عربجیہ: گاڑی بان، کوچوان کوچبان، بس ران، بگھی والا۔ Coachman, Cabman۔ عربخانة: کار کا شیڈ، کوچ گھر۔ عَرّاب: دینی باپ (God father) اور (Sponsor)۔ عَرّابَة: دینی ماں (God mother)۔ أعْرَابی جمع أعراب: ریگستان کا ایک عرب۔ بدو عُروبَة. عربیت، عربی حالت، عربی فکر، تصور، عرب ذہنیت، فطرت، خصوصیت و کردار۔ تعریب: عربی بنانا، عربی میں ترجمہ، عربی میں مستعار کے الفاظ کی شمولیت۔ مُعرِّب: عربی میں ترجمہ کرنے والا۔ مُعَرَّب: عربی بنایا ہوا، عربی میں ترجمہ کیا ہوا۔ اِعراب: اظہار، مظاہرہ، اعلان، فیصلہ۔ انداز گفتگو۔ عن: کا اظہار، اعراب (گرام کی اصلاح) عَرْبَدَ: جھگڑالو ہونا، کٹ حجتی ہونا۔ جھگڑا کرنا، شور مچانا، اکھڑ ہونا، تند ہونا، ہنگامہ خیز ہونا، شور وغل کرنا یا مچانا، عَرْبَدَة: جھگڑالو پن، کٹ حجتی، شور، شور وغل، غوغا، غل غبارہ، ہنگامہ، گڑبڑ، اودھم، دھما چوکڑی، بلوہ، فساد۔ عِربِید و مُعَربِد: جھگڑالو، کٹ حجتی، شور مچانے والا، اکھڑ، تند، ہنگامہ خیز، شور وغل کرنے والا۔ اودھم مچانے والا۔ عَرْبَنَ ہ: کو بیعانہ دینا، سائی دینا، زر پیشگی: دینا، کو مال کا تحفہ دینا، عُربُون و عَربون جمع عَرابین: سال نو کا تحفہ، سائی، بیعانہ، زر پیشگی، ضمانت، گروی، گرو۔

عرت: عَرَتَ ـِ عَرْتًا الرمحُ: نیزہ سخت ہونا۔ ـــ البرقُ وغیرُہُ: بجلی وغیرہ کا چمکنا۔ برقٌ اور رمحٌ عَرّاتٌ: بہت حرکت کرنے والا نیزہ یا بجلی۔ العَرْتبة: ناک یا ناک کا نرم حصہ یا اس کے نتھنے کا کنارہ۔

○ عَرْبَسَ ہُ: کو پریشان کرنا، برہم کرنا۔

عرج: ا۔ عَرَجَ ـِ عُرُوجًا ومَعْرجًا: لنگڑانا صفت أعْرَج جمع عُرْج وعُرجان م عَرْجاء عَرِجَ ـَ عَرَجًا: لنگڑا ہونا۔ ـــ وعَرُجَ ـُ عُرجَات الشمسُ: آفتاب کا مغرب کی طرف جھکنا۔ عَرَّجَ: ایک طرف سے دوسری طرف جھکنا۔ ـــ الرجُلُ: آفتاب کے غروب ہونے کے وقت داخل ہونا۔ ـــ عن الشیِٔ: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کو پیچیدہ دھاری دار بنانا۔ ـــ البناء او النهرَ: عمارت یا دریا کو جھکاؤ کے ساتھ بنانا۔ أعْرَجَ: آفتاب کے غروب ہونے کے وقت داخل ہونا۔ ہ اللّٰهُ: الله کا کسی کو لنگڑا کرنا۔ تعَرَّج: جھکنا۔ تعَارَجَ: لنگڑا بننا۔ إنْعَرَجَ الشیُٔ: مڑنا۔ ٹیڑھا ہونا۔ ـــ الطریقُ: راستہ کا جھکنا۔ ـــ عن الشیِٔ: کو ترک کر دینا، سے تجاوز کرنا۔ ـــ القومُ عن الطریق: لوگوں کا راستے سے بھٹک جانا۔ العَرَج والعَرَجان: لنگڑا پن، لنگڑے کی چال۔ لنگڑاہٹ۔ العرجاء اعرج کا مونث۔ لنگڑی (ح) بجوٌ امرٌ عَرِیجٌ: غیر مستحکم کام۔ الإنعِرَاج (ف): (ف) روشنی کی شعاع (یا 'س' شعاع) کا سیدھا نہ رہنا۔ اس کا مشاہدہ، مثال کے طور پر چھوٹے سے سراخ میں شعاع کے گزرنے پر ہوتا ہے۔ المُنعَرَج من الوادی: وادی کا موڑ۔

۲۔ عَرَجَ ـِ عُرُجًا ومَعْرَجًا فی السلّم: سیڑھی پر چڑھنا۔ ـ علی الشیِٔ وفیه: پر چڑھنا۔ عُرِجَ به: کا چڑھایا جانا۔ المِعْرَج و المَعْرَج والمِعْراج جمع مَعَارِج و مَعَاریج: سیڑھی، چڑھنے کی جگہ۔

۳۔ عَرَّجَ: ٹھہرنا۔ رکنا۔ کہتے ہیں۔ فلانٌ لایُعَرِّجُ علی قوله: اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ تعَرَّجَ علی المکان: کسی جگہ پر سواری کے جانور کو باندھنا اور اقامت کرنا۔ العَرْجَة والعُرْجَة: جس پر توقف کیا جائے۔ العُرَیْجَاء: دوپہر۔

۴۔ عَرْجَنَ الثوبَ: کپڑے پر شاخوں کی شکلیں بنانا۔ العُرْجُون: اسے العُرْجُد اور العُرجُد بھی کہا جاتا ہے جمع عَرَاجین: کھجور کے گچھے کی جڑ جو ٹیڑھی ہوتی ہے اور گچھے کے کاٹنے کے بعد درخت پر خشک ہو کر باقی رہتی ہے۔

○ عَرَجَ ـُ عُرُوجًا: چڑھنا، عَرِجَ ـَ عَرَجًا: لنگڑا ہونا، لنگڑا کر چلنا، عَرَّج علی: کی طرف مڑنا۔ (کسی جگہ) رکنا، ٹھہرنا۔ ـــ عن: کو بند کرنا سے منحرف ہونا۔ ـــ ہ: کو لنگڑا کرنا، مفلوج کرنا۔ ـــ ہ: کو ٹیڑھا میڑھا کرنا۔ أعْرَجَ ہُ: کو لنگڑا کرنا، لنگڑا لولا کرنا، مفلوج کرنا۔ تعَرَّج: پیچ و خم کھاتے ہوئے چلنا یا ہونا، ٹیڑھا میڑھا چلنا یا ہونا، ٹیڑھا میڑا راستہ اختیار کرنا۔ اِنعَرَجَ: جھکنا، ٹیڑھا، پیچ دار، یا موڑ والا ہونا یا ہو جانا، مڑا ہوا ہونا، جھکا ہوا ہونا، چکر دار ہونا۔ المِعراج: آدھی رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ۲۷ رجب کو یروشلم سے سات آسمانوں کا سفر۔ لیلة المعراج: معراج کی رات، تعاریج: خمیدگیاں۔ خمی خطوط، موڑ، پیچ، بل، چکر، لہر دار خطوط، بل کھاتی ہوئی چیزیں۔ تعَرَّج: ٹیڑھا میڑھا (راستہ) مُتعَرِّج: چکردار، بل دار، پیچ در پیچ، پیچیدہ، پیچ دار۔ ٹیڑھا میڑھا، پر پیچ و خم۔ مُنعَرِج: چکردار، بل کھاتا ہوا، پیچدار، پیچ در پیچ، پر پیچ، ٹیڑھا میڑھا، مُنعَرَج جمع مُنعَرَجات: موڑ، پھیر، اعوجاج پیچ، بل، زاویہ۔

عرد: ا۔ عَرَدَ ـُ عَرْدًا الحجرَ: پتھر کو دور پھینکنا۔ عَرِدَ ـَ عَرَدًا: بھاگ جانا، فرار ہو جانا۔ عَرَّدَ: بھاگ جانا، فرار ہو جانا۔ ـــ السهمُ فی الرَمِیَّة: تیر کا شکار کے پار ہونا۔ العَرّادَة جمع عَرّادات: پتھر پھینکنے کا جنگی آلہ۔ ـــ عند العامة: کچے کوئلے، (لکڑی کے جو جلانے پر دھواں دیں)۔

۲۔ عَرَدَ ـُ عُرُودًا و أعْرَدَ النباتُ او النابُ: پودے یا دانت کا پورا نکل آنا اور سخت ہو جانا۔ ـــ الشجرُ: درخت کا موٹا اور بڑا ہو جانا۔ عَرِدَ ـَ عَرَدًا: بیماری کے بعد کے جسم کا قوی ہو جانا۔ عَرَّدَ: بمعنی عَرِدَ نیز۔ ـــ النجمُ: ستارہ کا بلند ہونا۔ العَرْد والعَرِد والعُرُدّ: بہت سخت۔

۳۔ عَرَّدَ النجمُ: آسمان کے بیچ پہنچ کر مائل بغروب ہونا۔ الرجُلُ: راستہ چھوڑ کر اس سے مڑ جانا۔

۴۔ العَرَادَة (ح): مادہ ٹڈی۔ حالت کہتے ہیں هو فی عَرَادِة خیر: وہ اچھی حالت میں ہے۔ العَرِیْد: طور طریقہ، عادت، کہتے ہیں۔ هذا عَرِیْدُہُ: یہ اس کی عادت ہے۔

۵۔ عَرْدَسَ ہُ: کو پچھاڑنا۔ العَرَنْدَس: بڑا سیلاب۔ (ح): بڑا شیر۔ عِزٌّ عَرَنْدَسٌ: ثابت رہنے والی عزت۔ العَرَنْدس: عیسائی بچوں کا کھیل، ولیہ بربارہ کی عید سے پہلی رات کو بچے بھیس بدل کر گھروں میں جاتے ہیں۔ یہ عید ۴ دسمبر کو منائی جاتی ہے۔ (غالباً سریانی زبان کا لفظ ہے)۔

عرز: ا۔ عَرَزَ ـِ عَرْزًا الشیَٔ: کو سختی سے کھینچنا۔

۲۔ عَرَزَ ـِ عَرْزًا الرجُلَ: کو ملامت کرنا۔

۳۔ عَرِزَ ـَ عَرَزًا الشیُٔ: سکڑنا۔ عَرَّزَ الشیُٔ: سکڑنا۔ ـــ الشیَٔ: کو چھپانا۔ عَارَزَ و تعَارَزَ و إستَعْرَزَ الشیُٔ: سکڑنا۔

۴۔ عَرِزَ ـَ عَرَزًا الشی: سخت ہونا۔ عَارَزَہُ: سے دشمنی کرنا، کی مخالفت کرنا۔ تعَرَّزَ علیه: پر، کیلئے دشوار ہونا۔ إستَعْرَزَ الرجُلُ: سخت ہونا۔

۵۔ أَعْرَزَ الشیءَ: کو خراب کرنا، بگاڑ دینا۔

۶۔ العِرْزَال: مچان، درخت پر بنا ہوا جھونپڑا (وہی محافظ کیلئے)۔

عرس: ۱۔ عَرِسَ ۔ عَرَسًا: خوشی میں رہنا۔ أَعْرَسَ: ولیمہ کرنا۔ بأهله: دولہا کا اپنی دلہن کو اپنے گھر لانا۔ جماع کرنا تَعَرَّسَ لا مراته: اپنی بیوی پر فریفتہ ہونا۔ العِرْس جمع أَعْرَاس: دلہن، عِرسُ المراۃ: دولہا۔ العُرْسُ و العُرُس: جمع أَعْرَاس و عُرُسات زفاف ولیمہ کا کھانا۔ العَرُوس جمع عَرَائِس: دولہا، دلہن، جمع کیلئے کہتے ہیں۔ ھم عُرُس و ھُنَّ عَرَائِس اور دفع التباس کیلئے عورت پر عروسہ کا اطلاق کرتے ہیں العَرِیس: دلہن۔

۲۔ عَرِسَ ۔ عَرَسًا عنه: سے پھر جانا۔ عَرِسَ ۔ عَرَسًا علی ماعنده: سے باز رہنا، بخل کرنا ۔۔ عنه: بزدل ہونا، سے پیچھے ہٹنا، إِعْتَرَسَ القوم عنه: سے جدا ہونا، متفرق ہونا۔

۳۔ عَرَسَ ۔ عَرْسًا البعیرَ: بیٹھے ہوئے اونٹ کی گردن کو اگلے پاؤں سے باندھنا۔ عَرِسَ ۔۔ عَرَسًا الشیءُ: سخت ہونا۔ العِرْس (مص) جمع أَعْرَاس: رسی، خیمے کے بیچ کا کھمبا۔ العِرَاس: وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے۔

۴۔ عَرِسَ ۔ عَرَسًا الرجلُ: اترانا ۔۔ منه: سے بے خود ہونا صفت عَرِس

۵۔ عَرِسَ ۔ عَرَسًا به: سے چمٹ جانا، محبت کرنا ۔۔ الشرُّ بینهم: دشمنی کا لوگوں میں ہمیشہ رہنا۔ أَعْرَسَ الشیءَ: سے چمٹنا، محبت کرنا۔ العِرِّیس و العِرِّیسَة: بیشہ شیر، شیر کی پناہ گاہ۔

۶۔ عَرَّسَ القومُ: آرام کیلئے رات کے وقت اترنا۔ المُعْرَس و المُعَرَّس: آرام کے لئے اترنے کی جگہ۔

۷۔ أَعْرَسَ الرجلُ: آٹا پیسنے کے لئے چکی کے ایک پاٹ کو دوسرے پر رکھنا۔

۸۔ العُرْس جمع أَعْرَاس (ح): اونٹ کا چھوٹا بچہ، ابنُ عِرْسٍ جمع بنات عِرْسٍ: نیولا (مذکر و مونث)۔ العَرَّاس و المِعْرَس و المُعَرِّس: اونٹ کے چھوٹے بچوں کو بیچنے والا۔

○ عَرَّس ہ ب: کی سے شادی کرنا۔ أَعْرَسَ: شادی کی ضیافت کا اہتمام کرنا، عُرْس و عُرُس جمع أَعْرَاس و عُرُسَات: شادی، شادی کی تقریب، عِرْس جمع أعراس: شوہر، بیوی، ابن عِرس جمع بنات عِرس: نیولا۔ عِرْسَة: نیولا۔ عَرُوس جمع عُرُس: دولہا۔ مونث جمع عرائس: دلہن، گڑیا۔ العَرُوسَان: دلہن اور دولہا، میاں بیوی جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ عَرائِس النیل: کنول۔ عَرُوسَة جمع عَرائِس: دلہن، گڑیا عَرُوسَةُ البُرقع: مسلمان خواتین کے نقاب کی زیبائش کرنیوالی دھاتی ٹلکیاں۔ عَرِیس: دولہا۔ عِرِّیس: شیر کا بھٹ۔

عرش: ۱۔ عَرَشَ ۔ عَرْشًا: لکڑی کا مکان بنانا ۔۔ البیتَ: گھر بنانا ۔۔ و ۔ العَرْشَ: چھت بنانا، تخت بنانا ۔۔ البئرَ: کنویں کے نچلے حصہ کو قد آدم تک پتھروں سے بنا کر لکڑی سے بنانا۔ عَرْشًا و عُرُوشًا الکرمَ: انگور کی بیلوں کو ٹٹی پر چڑھانا۔ عَرَّشَ الکرمُ: انگور کی بیلوں کا ٹٹی پر چڑھنا۔ الطائرُ: پرندہ کا بلند ہو کر اپنے نیچے والے کو بازوؤں سے سایہ کرنا۔ الکرمَ: انگور کی بیلوں کو ٹٹی پر چڑھنا۔ البیتَ: گھر کی چھت بلند کرنا۔ أَعْرَشَ: ٹٹی بنانا۔ العَرْش (مص) جمع أَعْرَاش و عُرُوش و عِرَشَة و عُرُش: تخت شاہی وہ لکڑی جس سے کنویں کا اوپر کا حصہ بنایا جائے۔ شامیانہ، خیمہ چھپر، شہ نشین محل، کنج، کنویں کی من، کسی چیز کا ستون اور قوام کہتے ہیں۔ ثُلَّ عرشُهُ: اس کی عزت جاتی رہی اور معاملہ کمزور پڑ گیا ۔۔ من البیت: گھر کا چھت ۔۔ من القوم: قوم کا سردار۔ عَرْشُ الطائر: پرندے کا گھونسلا۔ عرش الکرم: انگور کی ٹٹی۔ العَرِیش جمع عُرُش: چھپر، کنج، حجلہ، عارضی دکان، باڑہ، انگور کی ٹٹی ۔۔ واحد عریشة جمع عُرُشان و عَرائِش: انگور کا درخت (عام لوگوں کی زبان میں) العَرِیشة: جمع عَرَائِش: پالکی۔

۲۔ عَرَشَ ۔ عُرُوشًا بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ عَرِشَ ۔ عَرَشًا و عُرُشًا بغریمه: اپنے قرض دار کے ساتھ لگا رہنا۔ تَعَرَّشَ بالمکان: جگہ پر ثابت رہنا ۔۔ بالامر: سے چمٹا رہنا ۔۔ الدابةَ: جانور پر سوار ہونا۔

۳۔ عَرِشَ ۔ عَرَشًا و عَرْشًا: متحیر ہونا، حیران و ششدر ہونا۔

۴۔ عَرَشَ ۔ عَرْشًا و عَرَشًا عنه: سے پھر جانا، کو چھوڑ دینا۔

۵۔ العُرْش: قدم کی پشت کا بلند حصہ۔

○ عَرَشَ ۔ عُرشا: (انگور کی بیلوں کے لئے) جعفری بنانا انگور کی بیلوں کو جعفری پر چڑھانا، ٹٹی پر چڑھانا۔ عَرَّش ہ: پر چھت ڈالنا، عَرْش جمع عُرُوش و أَعراش: تخت شاہی، قبیلہ، العریش: شمالی مصر کا بحر ابیض متوسط پر ایک شہر۔ تَعْرِیشَة جمع تعاریش جعفری، کنج، حجلہ۔

عرص: ۱۔ عَرَصَ ۔ عَرْصًا و عَرِصَ ۔ عَرَصًا البرقُ: بجلی کا پراگندہ ہو کر چمکنا، بجلی کا کڑکنا اور کوندنا، صفت عَرِص و عَرِص أَعْرَصَ الشیءُ: مضطرب ہونا، ہلنا۔ إِعْتَرَصَ الجلدُ: کھال پھڑکنا ۔۔ البرقُ: بجلی کا کڑکنا اور کوندنا ۔۔ الرجلُ: اچھلنا، کودنا۔ العَرّاص: کڑکتی اور بار بار چمکتی بجلی، گرجتا اور بجلی والا بادل۔

۲۔ عَرِصَ ۔ عَرَصًا و عَرِصَ ۔ عَرَصًا الرجلُ: خوش، تیز، چست اور شگفتہ خاطر ہونا۔ عَرَّصَ اللحمَ: گوشت کو صحن میں خشک کرنے کے لئے رکھنا۔ تَعَرَّصَ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ إِعْتَرَصَ الغلامُ: لڑکے کا کھیل کود کرنا اور خوش ہونا۔ العَرْصَة جمع عِراص و أَعْراص و عَرَصات: گھر کا صحن، وہ جگہ جس میں کوئی عمارت نہ ہو۔

۳۔ عَرَّص البعیرَ: اونٹ کو سدھانا۔

○ مُعَرَّص: دیوث، دلال، بھڑوا۔

عرض: ۱۔ عَرَضَ ۔ عَرْضًا: ظاہر ہونا اور ہمیشہ نہ رہنا ۔۔ الشیءَ لفلان: کو کوئی چیز پیش کرنا ۔۔ الشیءَ علیه: کو چیز دکھانا ۔۔ المتاعَ للبیع: سامان کو فروخت کیلئے خریداروں کو دکھانا ۔۔ الجندَ: فوج کا جائزہ لینا ۔۔ القوم علی السیف: لوگوں کو تلوار سے مارنا ۔۔ الحصیرَ: چٹائی بچھانا۔

عَرِضَ ۔ عَرَضًا: ظاہر ہونا، ہمیشہ نہ رہنا۔ عَرَّضَ المتاعَ: سامان کو سامان کے بدلے فروخت کرنا۔ أَعْرَضَ الامرُ: ظاہر ہونا کہتے ہیں۔ عرضتُهُ فأعْرَضَ: میں نے اسے ظاہر کیا تو وہ ظاہر ہو گیا۔ إِعْتَرَضَ: پیش ہونا۔ کہا جاتا ہے: عَرَضْتُهُ فاعْتَرَضَ: اس نے اس کو پیش کیا تو وہ پیش ہوا ۔۔ القائدُ الجندَ (ع ا): فوجیوں کا ایک ایک کر کے معائنہ کرنا۔ إِسْتَعْرَضَ القومَ: لوگوں کو دریافت حال کے بغیر قتل کرنا۔ کہتے ہیں۔ استعرض یُعْطی مَنْ أقبلَ و مَنْ أدبرَ: وہ بغیر سوال کئے ہر آنے جانے والے کو دیتا رہا۔ کہتے ہیں۔ إِسْتَعْرِضِ العربَ: جس عرب سے چاہو دریافت کر لو ۔۔ الشیءَ: کوئی چیز پیش کرنے کو کہنا ۔۔ ہ: کو کہنا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے مجھے دکھاؤ۔ العارضُ: غیر اصلی، نقلی، غیر جوہری، غیر حقیقی، غیر مادی، تغیر پذیر۔ العارضة جمع عَوارِض: وہ دانت جو منہ کے کنارہ پر ہو۔ ہنستے وقت منہ کا نظر آنیوالا حصہ حاجت۔ ضرورت العَرُوض (مص): جزا سزا کا دن، التجا، گزارش ۔۔ جمع عُروض اسباب، سامان (نقدی کے سواء) ۔۔ من اللیل جمع

عُرُوض و عِرَاض و أَعْرَاض. رات کی ایک گھڑی۔ عرضُ الحال عند الکتاب. حاکم کو دی جانے والی درخواست جمع عُرُوض الاحوال العَرَض جمع أَعْرَاض. عارضی، غیر دائمی چیز، کہتے ہیں۔ ھذا الامرُ عَرَضٌ یہ بات عارضی ہے اور زائل ہونے والی ہے۔ سامان، متاع، مایا، سراب، غیر حقیقی شے، بخشش، غنیمت۔ ـــ من کل شیٍ: جو قائم بالذات نہ ہو کسی جوہر کے ساتھ قائم ہو۔ أَعْرَاضُ الشجر: درخت کے بالائی حصے۔ العُرْضَة: نشانہ۔ العُرَاضَة خوشی کے موقعہ پر کی جانے والی فائرنگ۔ سفر سے واپس آنے والے کی طرف سے پیش کیا جانے والا تحفہ۔ العَرُوض: جمع أَعَارِیض (مونث): اشعار کا وزن۔ شعر کے پہلے مصرع کا جزو اخیر۔ العَرُوضی علم عروض کا ماہر۔ العَرِیْضَة: درخواست۔ المَعْرِض: نمائش گاہ کچھ پیش کرنے اور ظاہر کرنے کا موقعہ۔ کہتے ہیں۔ ذکرتہ فی معرض کذا: میں نے اظہار کے موقعہ پر اس کا ذکر کیا۔ المِعْرَض: دلہن کے شب عروسی کے کپڑے۔ المَعْرُوض: حکام کی خدمت میں پیش کی جانے والی درخواست۔

۲۔ عَرَضَ ـِ عَرْضًا له عارضٌ من الحُمّی: کو بخار آنا۔ الرجُلُ: بغیر کسی بیماری یا سبب کے مرجانا۔ لی عارضٌ: مجھے ایک مانع پیش آیا کہتے ہیں۔ لاتعرض عَرْضَ فلان: فلاں کو برائی سے یاد نہ کرو۔ عُرِضَ: پاگل ہونا۔ عَرَّضَ الشیَٔ للشیٔ: کو کے مقابل کرنا۔ کہتے ہیں عَرَّضْتَ مالکَ للھلاك: تو نے اپنے مال کو بربادی کے لئے پیش کردیا۔ تَعَرَّضَ: فاسد ہونا۔ ـــ الامرَ وللامر والی الامر: کے درپے ہونا، کو طلب کرنا۔ اِعْتَرَضَ: چوڑائی میں ہونا پار ہونا۔ البعیرَ: سرکش اونٹ پر سوار ہونا۔ ـــ الشیَٔ: کا تکلف کرنا۔ ـــ له: کو منع کرنا۔ ـــ دون الشیٔ: میں حائل ہونا۔ ـــ له بسهم: کے سامنے آ کر اسے تیر مارنا۔ ـــ عِرضَهُ: کی آبرو گھٹانا۔ العارِض: بادل، پہاڑ کہتے ہیں۔ عَرَضَ عارِضٌ: ایک مانع نے روک دیا۔ العَارِضَة جمع عَوَارِض: عارض کا مونث، پیش آنے والی بات۔ العَرْض: جنون، بادل، پہاڑ، لشکر جرار، بہت ٹڈیاں۔ العِرض بڑا بادل۔ بہت ٹڈیاں، لشکر جرار، نفس (کہتے ہیں۔ اکرمتُ عنه عِرْضی: میں نے اس سے اپنے نفس کو بچایا۔) جسم، جسم کی بو (ع ا) مسامات۔ ـــ جمع أعْرَاض: عزت، حسب، شرف، ستائش اور مذمت کا مقام، اچھی خصلت۔ ـــ من الرحال: بیہودگی سے پیش آنے والا آدمی۔ کہتے ہیں ھو نقیُّ العِرض. وہ پاکدامن ہے۔ ـــ ھو عَرِبُ العِرْض: وہ خاندان کا کمینہ ہے۔ ذو العرض من القوم: اشراف قوم۔ العَرَض جمع أعراض عارضہ، کہتے ہیں۔ فعله عَرَضًا اس نے بے سوچے سمجھے بغیر کیا۔ العُرْضَة: ہمت، کشتی کا داؤ پیچ، کہتے ہیں۔ ھو عُرْضَةٌ لکذا وہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ فلانةٌ عُرْضَةٌ لزوجها فلاں عورت اپنے شوہر پر حاوی ہے۔ جعلته عُرضة لکذا میں نے اسے، کا نشانہ بنایا۔ ھُوَ عُرْضَةٌ للناس وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ ہے۔ ھو عُرضَةٌ للکلام: وہ اعتراضات کا نشانہ ہے۔ العِرضَة: پیش کرنے کی نوعیت۔ عِرْض کا مونث یعنی بیہودگی سے پیش آنے والی عورت۔ العُرْضی من الابل: سرکش اونٹ جو ابھی تک اچھی طرح نہ سدھایا گیا ہو۔ العَرُوض بادل، دامن کوہ کا راستہ۔ العِرِّیَضُ شر کے ساتھ پیش آنے والا، برائی کے ساتھ مخالفت کرنے والا۔

۳۔ عَرَضَ ـُ عَرْضًا العودَ علی الاناء: برتن پر لکڑی کو چوڑائی میں رکھنا۔ عَرُضَ ـــ عِرَضًا و عَرَاضَةً چوڑا ہونا، صفت عَرِیض و عُرَاض۔ عَرَّضَ الشیَٔ: کو چوڑا کرنا۔ أَعْرَضَ الشیَٔ کو چوڑا کرنا۔ ـــ المسالةَ: لمبا سوال کرنا۔ ـــ فی المکارم. بہت فیاض ہونا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا چوڑا ہونا۔ اِسْتَعْرَضَ: چوڑی چیز طلب کرنا۔ العَارِضَة جمع عَوَارِض: دروازے کے اوپر کی لکڑی جس میں دروازہ گھومتا ہے۔ عرض میں رکھی ہوئی چھت کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی۔ العُرْض: دامن کوہ۔ ـــ من البحر او النهر: سمندر یا دریا کا بیچ۔ ـــ من الحدیث: بہتر اور بڑی بات، کہتے ہیں۔ ھو من عُرْضِ الناس: وہ عام لوگوں میں سے ہے۔ العَرْض: چوڑائی، دامن کوہ۔ وسعت، زمین میں کسی جگہ کی چوڑائی (فلك) عرض البلد: عرض البلد کا درجہ کسی جگہ کے شاقول اور استوائی سطح کے درمیان کا زاویہ۔ بیروت کی رسدگاہ کا عرض۔ کسی ستارے کا آسمانی عرض۔ فلک بروج کی سطح اور زمین اور ستارے کے درمیان خط مستقیم کا زاویہ۔ العِرَاض جمع عُرُض۔ اونٹ کی ران کی چوڑائی میں علامت یا لکیر۔ عِرَاضُ الحدیث: بڑی اور بہتر بات۔ العُرَاض و العُرُض: چوڑا۔ العُرَاضَة: عُراض کا مونث۔ العَرُوض: بہت چیز۔ العَرِیض جمع عِرَاض چوڑا۔ دعاءٌ عَرِیضٌ: لمبی چوڑی دعاء۔ کہتے ہیں۔ ھو عَرِیضُ البِطَان: وہ مال دار ہے۔ العَرِیضَة: عَرِیض کا مونث۔ المِعْرَاض. بغیر پر کا تیر جس کا درمیانی حصہ موٹا ہو۔

۴۔ عَرَضَ ـِ عَرَضًا الفرسُ. گھوڑے کا اپنے سر اور گردن کو جھکا کر دوڑنے لگنا۔ عَارَضَ مُعَارَضَةً وعِرَاضًا ہ سے پھر جانا۔ اعْرَضَ الرجُلُ: راستہ میں ایک جانب ہونا۔ أَعْرَضَ عنه سے منہ موڑنا۔ کہتے ہیں ما عرض لك الخیر: تمہیں بھلائی کرنے کی قدرت ہوئی۔ أَعْرَضَ لك الظبیُ فارمِهِ: ہرن تمہارے سامنے آگیا ہے لہٰذا اسے تیر مارو۔ تَعَرَّضَ ایک جانب کو ظاہر کرنا۔ ـــ الشیُٔ ٹیڑھا ہونا۔ العَارِضَة جمع عَوَارِض گوشہ، کنارہ جانب۔ العِرَاض جمع عُرُض گوشہ، جانب حصہ۔ العُرْض جانب، پہلو، گوشہ، کنارہ۔ ـــ من السیف او العُنُق تلوار یا گردن کا پہلو یا جانب۔ کہتے ہیں۔ نظر الیه عن عُرضٍ و کلّمه عن عُرْضٍ اس نے اسے گوشہ چشم سے دیکھا اور ایک جانب ہو کر بات کی، خرجوا یضربون الناس عن عُرْضٍ نکل کر انہوں نے لوگوں کو مارنا شروع کردیا اور پرواہ نہ کی کہ کس کو مار رہے ہیں اور کیوں مار رہے ہیں۔ ـــ اضرب به عُرْضَ الحائط. اسے دیوار کے ایک گوشہ میں پھینک دو اور اعراض کرو۔ العِرْض وادی۔ العِرْض جمع عُرضان: وادی، وادی یا شہر کا پہلو جانب، طرف، ڈھلان، ہر وہ وادی جس میں درخت پانی اور دیہات ہوں۔ العُرْضی: جو زین پر قائم نہ رہ سکے۔ العَرُوض: گوشہ۔ ـــ جمع أَعَارِیض سرکش اونٹنی جو سدھائی نہ گئی ہو۔

۵۔ عَرَضَ ـِ عَرْضًا عَرَضَ او عُرضَ فلان: کسی شخص کی سی چال چلنا۔ ـــ له من حقِهِ ثوبًا: کو اس کے حق کی جگہ اس کے بدلہ میں کپڑا دینا۔ عَرَّضَ ہ من ماله بکذا: کو بدلہ میں کچھ دینا۔ عَارَضَ مُعَارَضَةً و عِرَاضًا ہ سے کنی کترانا۔ ـــ الکتابَ بالکتاب. کتاب کا کتاب کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ ـــ ہ بمثل صنیعه: دوسرے کی طرح کام کرنا، کے پاس اس جیسی چیز لانا۔ ـــ الرجُلَ. کے کلام کی تردید کرنا، کی مزاحمت کرنا، کے مقابلہ میں حصہ لینا۔ ـــ فی المسیر کے برابر چلنا، کے مقابلہ میں چلنا، کے آگے چلنا، کہتے ہیں۔ عارضه فعرضه: اس نے مخالفت میں مقابلہ کیا اور اس پر غالب آیا۔ تعارَضَ الرجلان: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا۔ اِعْتَرَضَ علیه من قول او فعل: کے قول یا فعل کو خطا کی طرف منسوب کرنا۔ العَارِض (فا): رخسارہ۔ العَارِضَة جمع عَوَارِض: رخسارہ۔

العَرَض مص کہتے ہیں۔ اشتریت المتاع بعَرَضٍ میں نے سامان کے بدلے میں اس جیسے سامان کو خریدا۔ الشئُ عَرَضُ عيني چیز میری نگاہ کے سامنے ہے۔ العَرُوض وہ جگہ جو چلنے پر آپ کے مزاحم ہو۔ کہتے ہیں۔ هذه المسالة عَرُوضُ هذه: یہ مسئلہ اس کی نظیر ہے۔

۶۔ عَرَض ــ عُرْضًا مکہ و مدینہ یا ان کے اطراف میں جانا۔ العَرُوض مکہ و مدینہ اور ان کا ارد گرد۔

۷۔ عَرَض ــ عُرضًا الكتابَ کتاب کو زبانی پڑھنا۔ عَرَضَ الكاتبُ ادیب کا تعیین و تصریح نہ کرنا۔ ــ لہ وبہ تعریض کرنا یعنی اشارتاً اور کنایۃً کہنا مگر اپنی بات واضح نہ کرنا۔ فلانٌ عمدہ رائے والا ہونا۔ العَارِضة عمدہ رائے، کلام کی تنقیح (تصحیح) کہتے ہیں۔ فلانٌ ذو عارضةٍ فلاں شخص صاحب بیان فی البدیہہ کہنے والا اور فصیح ہے۔ العَرُوض من الكلام مضمون، منشا، مدعا۔ التعريض في الكلام توضیح کے بغیر سامع کو اپنا مقصد سمجھانے والی بات المِعْراض جمع مَعَاريض توریہ، ذومعنی بات۔ تلمیح کنایہ۔ ــ من الكلام مضمون منشا، مدعا۔ الكلامُ المُعَرَّض جمع مَعَارِض و معاريض مبہم کلام، ان في المَعَاريض لمندوحةً عن الكذب تعریض میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔

○ عَرَض ــ عرضا چوڑا ہونا یا ہو جانا۔ عَرَض ــ عَرَضًا ل کے سامنے ظاہر ہونا، دکھائی دینا، کے راستے میں آنا، سے پیش آنا۔ پر (افتاد وغیرہ) پڑنا، کو خیال آنا، کی طرف مڑنا، کی، کا خیال رکھنا، کی نگہداشت کرنا، سے دلچسپی لینا، کی طرف توجہ کرنا، تن دہی سے کوئی کام کرنا، کی طرف توجہ کرنا، میں حصہ لینا، کا جائزہ لینا، کا آغاز کرنا، پر کہنا، لکھنا، کو پیش کرنا، سے متعلق ہونا ــ ہ علی کو کچھ دکھانا، کو کچھ پیش کرنا، کے سامنے چیز کی نمائش کرنا، کے سامنے کچھ رکھنا ــ ہ (فلم وغیرہ) دکھانا، (ڈراما) سٹیج پر لانا (ڈراما) کرنا ــ ہ علی کو کچھ پیش کرنا، کا خیال دل میں لانا، کو کچھ تجویز کرنا، کو کا ہدف بنانا ــ ہ کا معائنہ کرنا ــ ہ فوجی دستے کا معائنہ کرنا ــ ہ کا جائزہ لینا۔ عُرِض پاگل ہونا یا ہو جانا۔ عَرَض لہ عارضٌ اس کے راستہ میں ایک رکاوٹ آ گئی۔ عرض لہ خاطرٌ اس کو ایک خیال آیا، اس کے پاس ایک تجویز تھی۔ عَرَّض ہ کو چوڑا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا۔ ہ/ ہ ل کو (خطرے مصیبت میں) ڈالنا، کو (دھوپ وغیرہ) دکھانا ــ ل ب پر چوٹ کرنا، تعریض کرنا، کی طرف اشارہ کرنا، تلمیح کرنا، کنایہ کرنا، اشارۃً کہنا۔ عرَّضَهُ للنور کو روشنی کے سامنے کرنا۔ عَارَض ہ/ ہ کا مقابلہ کرنا، کی مقاومت کرنا، مزاحمت کرنا، کے خلاف کام کرنا، کی تردید کرنا، مخالفت کرنا، کے خلاف اعتراضات اٹھانا، احتجاج کرنا، کے خلاف ہونا، کے برخلاف ہونا، کے مقابل ہونا، سے کنی کترانا، سے بچنا ــ ہ ب کا سے مقابلہ کرنا۔ أَعْرَض من سے ہٹنا، پھرنا، سے کنی کترانا، سے بچنا، سے پہلو تہی کرنا، سے گریز کرنا، کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، سے دستبردار ہونا، سے قطع تعلق کرنا، اپنا ماننے سے انکار کرنا، سے بے تعلقی یا لاعلمی ظاہر کرنا، کا ذکر نہ کرنا۔ أَعْرَض عن إلى سے ہٹ کر کسی اور طرف رخ کرنا۔ تَعَرَّض ل کی مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، پر اعتراض یا اعتراضات کرنا، کا سامنا کرنا (جیسے مسئلہ کا): میں مداخلت کرنا۔ مخل ہونا، سے ٹکرانا، متصادم ہونا، کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنا (کسی موضوع کی) تفصیلات میں جانا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑا اٹھانا۔ (کوئی کام) شروع کرنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا۔ کا خطرہ مول لینا۔ (دھوپ وغیرہ میں) رکھا جانا۔ تَعَارَض ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ــ مع سے متضاد ہونا، کے خلاف یا برعکس ہونا، سے متصادم ہونا، کے الٹ ہونا۔ اِعْتَرَض ہ کے پاس جانا، اپنے آپ کو کے سامنے پیش کرنا ــ علی پر اعتراض کرنا، اعتراضات کرنا۔ کو ویٹو کرنا، کے بارے میں حق استرداد استعمال کرنا، کے خلاف احتجاج کرنا، کی مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، اعترض ہ/ ہ یا ل کے راستہ میں حائل ہونا، کا راستہ روکنا ــ ل کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا۔ ــ ہ کو پیش آنا، واقع ہونا، پر پڑنا (افتاد وغیرہ) إعْتَرَض سبيلَه کا راستہ روکنا۔ اِسْتَعْرَض ہ/ ہ کو دکھانے کی درخواست کرنا ــ ہ کا جائزہ لینا (خصوصاً اپنے تصور میں یا اپنی ذہنی آنکھ کے سامنے) ہ کو یاد کرنا، کو خیال میں لا کھڑا کرنا، کی آنکھوں میں تصویر پھرانا، کی ذہن میں تصویر لانا ــ ہ کا وزن کرنا، کو تولنا، کی اہمیت یا قدر و قیمت کا اندازہ کرنا، کا جائزہ لینا، پر غور کرنا، کا معائنہ کرنا، (فوجی دستوں) کا معائنہ کرنا ــ ہ کو پیش کرنا۔ بالتفصیل سمجھانا (خصوصاً نیا نظریہ) ــ تختی سے جانا ــ ھم (دشمنوں کا) زیادہ بکھیڑے کے بغیر قتل عام کرنا۔ عَرْض جمع عُروض چوڑائی عرض پیشکش، اظہار، مظاہرہ، ڈرامہ کرنا، سٹیج پر لانا یا پیش کرنا، دکھانا، تمثیل پیش کرنا، نمائش بیان، تشریح، گزارش، درخواست دائر کرنا، تجویز، پیشکش، ٹینڈر (Tender)، ٹھیکہ کا تخمینہ، پریڈ (Parade)، فوجی معائنہ (Review)، تجارتی مال، مال تجارت۔ بالعَرض کے پار، آر پار، کے سامنے کی راہیں، آڑا، ترچھا، چوڑائی میں۔ العرض والطلب رسد و طلب Supply & Demand، یا طلب و رسد، عرضُ الأزياء: فیشن شو (Fashion show)، عرض حال یا عرضحال جمع عرضحالات درخواست خط العرض یا درجة الارض عرض البلد کا درجہ، ڈگری۔ شُبّاكُ العرض شو ونڈو Show window ــ یومُ العرض۔ یوم آخرت، آخرت، عَرْضِي قاطع، افقی، خطٌّ عرضي عرض البلد کا درجہ، جغرافیائی عرض البلد، عِرْض جمع أعراض عزت، وقار، نیک نامی، عظمت، مرتبہ، بلند مرتبہ، معزز عہدہ، انا في عِرضك مجھے آپ کی سخاوت پر اعتماد ہے، مجھ پر رحم کیجئے۔ عُرْض جانب بیچ درمیان۔ في عُرْضِ البحر سمندر میں، کھلے سمندر میں۔ ألقى (ضَرَب) به عُرْض الحائط کو حقیر جاننا، گھٹیا یا برا جاننا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، ذلیل جاننا، سے نفرت کرنا، کو مسترد کرنا، کو تباہ کرنا، کو ناکام بنا دینا، کو ترک کرنا، سمندر میں پھینکنا۔ نظر اليه عن عُرْض کو نکھیوں سے دیکھنا، شک و شبہ کی نظروں سے دیکھنا، کو ترچھی نظر سے دیکھنا۔ في عُرض الناس لوگوں کے ہجوم کے درمیان هو من عُرْض الناس وہ عام لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ عُرْضاني چوڑے رخ (پر)، چوڑے رخ پڑا ہوا، عرض البلدی، آڑا، ترچھا ناپا ہوا عَرَض جمع أعراض حادثہ، سانحہ، غیر یقینی اور غیر ضروری خصوصیت یا وصف، اتفاقی چیز، بیماری کی علامت۔ عَرَضًا، بالعَرَض ضمناً، اتفاقاً، اتفاقی۔ عَرَضِي اتفاقی، ناگہانی، غیر ارادی، نا متوقع، غیر ضروری، ہنگامی، اتفاقی، وقتی۔ عَرَضيات غیر ضروری واقعات، غیر اہم واقعات، اتفاقی واقعات۔ خطيئة عَرَضيّة قابل معافی جرم، گناہ۔ عُرْضة نشانہ۔ ہدف، منشا، مطلب مقصد، نیت مراد، منصوبہ ــ ل کا نشانہ، کے خطرے میں، کا ہدف، کا امکان رکھنے والا، کا مستوجب، کے لئے موزوں، کے شایاں، کے مناسب عَرُوض عروض (Prosody) جمع أعاريض پہلے مصرعہ کا جز و اخیر۔ علم العروض علم عروض۔ عَرُوضي عروض سے متعلق عَرِيض جمع عِراض چوڑا، وسیع، بڑا، دور تک پھیلا ہوا عَرِيضة جمع عَرائِض درخواست، عرضی مَعْرِض جمع

مَعارِض: وہ جگہ جہاں کوئی چیز دکھائی جائے یا اس کی نمائش کی جائے۔ شوروم، سٹیج، نمائش، بیان، تشریح، شو (Show) میلہ (تجارتی) (Fair) وقت، موقع، فی معرض: کی شکل میں کے انداز میں، کے موقعہ پر، کے وقوع پر، کے ظہور پر، لسنا الاٰنَ فی معرض الکلام عن: یہ کے بارے میں گفتگو کی جگہ نہیں، یہ گفتگو کا موقع نہیں۔ مَعْرِضُ الازیاء: فیشن شو (Fashion Show)، معرض الصحف: اخباری تبصرہ، جائزہ Press review مِعْرَض: شادی کی عبا۔ مِعراض: قال فی مِعراض کلامہ: دوسری باتوں میں اس نے کہا، اس نے اتفاقاً ذکر کیا۔ تعریض: اشارہ، تلمیح، کنایہ، مُعارَضة: مخالفت، حزب، مخالف، حزب اختلاف (The opposition) مزاحمت، مقاومت، تردید، احتجاج، اعتراض، برق گزار Resistance (برقیات)۔ فی اِعْتِراضٍ: بادل نخواستہ، ہچکچاہٹ سے، غیر آمادگی سے، نارضامندی سے، حق الاعتراض: ویٹو (کا حق) Veto یا right of veto۔ اِستعراض: جائزہ طائرانہ نظر، پریڈ، (فوجی) معائنہ، حالات حاضرہ پر تلخ تبصرے والا ڈراما (Revue) موسیقی کا شو۔ (Musical show) فِرْقَة استعراضیة: کھیل کا طائفہ Show troupe، حالات حاضرہ پر تلخ تبصرہ پر مبنی ڈرامے کا طائفہ۔ فلم اِسْتِعراضی: موسیقی والی فلم، عارِض جمع عارضون: نمائش کنندہ، مظاہرہ کرنیوالا، مظاہر (demonstrator) جمع عَوارِض: رکاوٹ، عارضی خلل، خلاف قیاس حالت حملہ، دورہ، باری، اتفاقی یا غیر ضروری (چیز) حادثہ، رخسار، العارضان: رخسارے خفیفُ العارضین: چھدری داڑھی والا۔ فی عارِضِ الطریق: سڑک کے بیچ میں عارضة جمع عارضات: خاتون مظاہرہ کرنے والی، نمائش کرنے والی۔ عَوارِض: رخسار، (دروازے کا) پاکھا، بازو، بڑا شہتیر، کھلنے والا روشن دان، ہوادان، لکڑی کے فرش کی کڑی یا شہتیر، شہتیر، منفی قطب (Anode) قوة المعارضة: خوش بیانی، فصاحت۔ عارضة الازیاء: درزی کی دکان پر فیشن کے نمونے کے کپڑے پہن کر دکھانے والی ملازمہ (Mannequin, mannekin) عارِضی: اتفاقی، ناگہانی غیر ارادی، نامتوقع، وقتی، کبھی کبھار کا، تقریباتی، مَعْرُوض جمع مَعاریض: بیان، رپورٹ، محضر، محضر نامہ، درخواست جمع مَعْرُوضات: تجاویز، بیانات، پیشکشیں، ٹینڈر، ٹھیکہ لینے کے لئے تخمینے، نمائش میں رکھی ہوئی چیزیں، پیش کردہ، دستاویزات۔ مُعارِض: حریف، مقابل، دشمن، مدمقابل، مخالف، مخالفت کرنے والا، تردید کرنیوالا۔ مُعْتَرِض: آر پار پڑا ہوا یا آر پار چلنے والا، میں سے گزرنے والا، پار جانے والا، چوڑے رخ، پڑا ہوا، حریف، دشمن، مخالف، مخالفت کرنے والا، تردید کرنے والا، برق گزار یا غیر حرگزار (برقیات) جملة معترضة: جملہ معترضہ Parenthesis یا parenthetical clause عُرضی: فوجی کیمپ۔ (ترکی لفظ اردو سے)

عرط: عَرَطَ ـُ عَرْطًا عِرضَ فلان: کی غیبت کرنا۔ اِعْتَرَطَ عِرضَ فلان: کی غیبت کرنا۔ ــ الرجُلُ: ملک میں دور چلا جانا۔ العِرْيَط واُمُّ عِرْيَط واُمّ العِرْيَط (ح): بچھو۔

عرف: عَرَفَ ـِ عِرْفَةً و عِرْفانًا و عِرِفّانًا و مَعْرِفَةً الشیءَ: کو جاننا، پہچاننا۔ ــ بذنبه: اپنے گناہ کا اعتراف کرنا۔ ــ عُرافَةً علی القوم: چودھری ہونا، قوم کا انتظام کرنا، قوم کی سیاست کرنا۔ عَرُفَ ـُ عَرافَةً: چودھری ہونا۔ عَرَّفَهُ الامرَ: کو معاملہ سے آگاہ کرنا۔ ــهُ بفلان: کا سے تعارف کرانا۔ ــ الحُجّاجَ: حاجیوں کا عرفہ میں ٹھہرنا۔ ــ الضالّةَ: گمشدہ چیز کو ڈھونڈنا۔ ــ الاسمَ: نکرہ اسم کو معرفہ بنانا۔ اَعْرَفَ فلانًا: کو خطا پر مطلع کر کے معاف کر دینا۔ تَعَرَّفَ الاسمُ: نکرہ اسم کا معرفہ ہوجانا ــ الشیءَ: کو طلب کرنے کے بعد پہچان لینا۔ ــ الضالّةَ: گمشدہ کو تلاش کرنا۔ ــ بفلان: سے آشنا ہونا۔ ــ الیه: کو اپنے سے واقف کرانا۔ تعارف القومُ: ایک دوسرے کو پہچاننا۔ اِعْتَرَفَ بالشیء: کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا۔ ــ الشیءَ: کو پہچاننا۔ اِعْتَرَفَ به: کا ثبوت دینا۔ الرجُلَ: سے دریافت کرنا۔ ــ الیه: کو اپنے نام و مرتبہ سے آگاہ کرنا۔ الضالّةَ: گمشدہ چیز کے اوصاف بتانا اور یہ بتانا کہ وہ اس کا مالک ہے۔ اِسْتَعْرَفَ الشیءَ: کو پہچاننا۔ الی فلان: واقفیت کے لئے نسبت بیان کرنا۔ العارف: فا کہتے ہیں۔ هذا امر عارف: یہ معاملہ معروف ہے۔ العارِفة جمع عَوارِف: عارف کا مونث۔ العُرف: اقرار، اعتراف کا اسم، (کہتے ہیں۔ له عليَّ الفٌ عُرفًا: میرے اوپر اس کے ہزار احسان ہیں، مجھے ان کا اقرار ہے)۔ تسلیم شدہ باتیں، اصطلاح۔ عُرفُ اللسان: لغوی اصطلاح۔ عُرفُ الشرع: شرعی اصطلاح۔ العُرفة جمع عُرَف: دو چیزوں کی درمیانی حد۔ العِرفة: دریافت، سوال عَرَفة: مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام یوم عَرَفة: ذی الحجہ کا 9واں دن عَرَفات: مکہ سے بارہ میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑی جو حاجیوں کے لئے نویں تاریخ ذی الحجہ میں وقوف کرنے کی جگہ ہے۔ نسبت کیلئے عَرَفی آتا ہے۔ العِرافة: نجومی کا پیشہ۔ العَرّاف: نجومی، ماضی اور مستقبل کے بارے میں بتانے والا، طبیب العِرفان و العُرُفّان: اقرار کرنیوالا، بتانے والا۔ العَرُوف جمع عُرُف: جاننے والا۔ العَرُوفة: عالم۔ العَرِیف جمع عُرَفاء: عالم، جاننے والا، اپنے ساتھیوں کا تعارف کرانے والا، قوم کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا۔ نقیب، اور یہ رئیس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ (اع): سارجنٹ Sergeant، کارپورل Carporal، عَرِیفُ المکاتب: مانیٹر۔ امرٌ عَرِیفٌ: امر معروف۔ الاَعْرَف: اسم تفضیل، زیادہ جاننے والا، الاعتراف (مص): پادری کے سامنے اقرار گناہ۔ المَعْرَف و المَعْرِف: معارف کا واحد انسان کے چہرہ اور چہرہ کے حد و خال، کیونکہ انسان چہرہ سے پہچانا جاتا ہے۔ المَعارِف: چہرے کے محاسن (کہتے ہیں۔ هم غُرُّ المَعارِف شُمُّ المَراعِف: وہ روشن چہروں اور اونچی ناکوں والے ہیں) علوم۔ مَعارِف الرجُلِ: شناسا لوگ، جان پہچان والے، کہتے ہیں۔ هو من المَعارِف: وہ مشہور لوگوں میں سے ہے۔ المَعْرِفة (مص): حقیقت کو پالینا المَعْرُوف: مشہور۔ المُعْتَرِف (فا): ایمان کا اقرار کرنے والا۔

۲۔ عَرَفَ ـِ عِرْفَةً و عِرفانًا و عِرِفّانًا و مَعْرِفَةً ہُ: کو بدلہ دینا۔ العُرف: بخشش بھلائی، عطیہ۔ العِرفان (مص): مہربانی۔ العارِفة جمع عَوارِف: معروف، عطیہ۔ المعروف: خیر، احسان، رزق۔

۳۔ عَرَفَ ـِ عِرْفَةً و عِرْفانًا و عِرِفّانًا و مَعْرِفَةً للامر: پر صبر کرنا۔ اِعْتَرَفَ: ذلیل ہونا، تابعدار ہونا۔ للامر: پر صبر کرنا۔ العُرف و العِرف: صبر۔ العارِف (فا): صبر کرنے والا۔ العَرُوف: صبر کرنے والا۔

۴۔ عَرَفَ ـُ عَرْفًا الفرسَ: گھوڑے کے ایال کاٹنا۔ اَعْرَفَ الفرسُ: گھوڑے کا لمبے ایال والا ہونا۔ اِعْرَوْرَفَ الفرسُ: گھوڑے کا ایال والا ہونا۔ الراکبُ الفرسَ: گھوڑے کی ایال پر سوار ہونا۔ ــ النخلُ: درخت خرما کا گنجان ہونا۔ ــ الرجُلُ: درخت خرما پر چڑھنا۔ ــ البحرُ: سمندر کی موجیں بلند ہونا۔ ــ الدمُ: خون جھاگ والا ہونا۔ العُرف جمع

عُرَف و أَعْرَاف: ایال، مرغ کی کلغی، سمندر کی لہر، موج، ریت کی بلندی، اونچی جگہ، کہتے ہیں۔ جَاءَ القومُ عُرُفًا: قوم کے لوگ آگے پیچھے آئے۔ عُرف الدیلک (ن): ایک قسم کا پودا۔ العُرُف: ایال: اونچی ریت، اونچی جگہ، العَرْفة: ہوا۔ الأَعْرَف: ایال دار (گھوڑا) کلغی دار (مرغا)۔ حَزْنٌ أَعْرَف: بلند جگہ۔ العَرفاء: جمع عُرف اعرف کا مونث۔ (ح): بجو قُلَّةٌ عَرفاء: بلند چوٹی، الأعراف: بہشت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ایک قسم کے کھجور کا درخت۔ أَعْرَافُ الریاح و السحاب: ابتدائی ہوائیں۔ بلند بادل۔ اعرافُ الحجاب او الرمل: حجاب اور ریت کی بلندیاں۔ الاعراف: قرآن مجید کی ایک سورۃ کا نام۔ المعْرَفة جمع مَعَارف: ایال کے اگنے کی جگہ۔

۵۔ عَرُف ـُ عَرْفًا و عَرَافَةً: بہت خوشبو لگانا، کی خوشبو عمدہ ہونا۔ عَرِفَ ـَ عَرْفًا: خوشبو چھوڑ دینا۔ عَرَّف الشئَ: کو خوشبودار کرنا۔ ــ الطعامَ: سالن زیادہ کرنا۔ العَرْف (مص): بو۔ اکثر اس کا استعمال خوشبو کے لئے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ما أَطْيَبَ عَرْفَهُ: اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے۔ ضرب المثل ہے۔ لایعجز مُسْكُ السَّوء عن عَرْف السَّوء: ردی کھال بھی بو سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ مثل کمینہ شخص کے متعلق ہے جو برے کام کرتا رہتا ہے۔ ارضٌ معروفة: خوشبودار زمین۔

۶۔ عُرِف الرجُلُ: کی ہتھیلی میں پھوڑا نکل آنا، صفت: معروف العَرْفة (طب): ہتھیلی کا زخم۔

۷۔ إعْرَوْرَف لِلشر: برائی کے لئے آمادہ ہونا۔

۸۔ العَرْفَج جمع عَرَافِج (ن): ایک پودا جو نرم زمین میں اگتا ہے۔ العَرَافِج: وہ ریت جس میں راہ نہ ہو۔

○ عَرَفَ ـِ مَعْرِفَةً و عِرْفَانًا ہ / ہ: کو جاننا، پہچاننا، دیکھ لینا، سمجھ لینا، ــ ہ: سے واقف ہونا، آگاہ ہونا، شناسا ہونا، کو دریافت کرنا، معلوم کرنا۔ ــ ہ ب: کو صحیح تسلیم کرنا، قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ ــ ہ ہ: کو بطور...... تسلیم کرنا۔ ــ ہ ل: میں کی گنجائش کو مد نظر رکھنا۔ ــ ہ: کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا۔ ــ ہ/ ہ من: کو میں سے اختیار کرنا۔ عُرِف ب: کے نام سے جانا جانا، معروف ہونا، عرف حَقَّ المعرفة: کا یقین کرنا، کے بارے میں پورا یقین ہونا۔ عَرَفَتْ له الجمیل: وہ اسکی شکر گزار، ممنون یا احسان مند یا متشکر تھی، وہ اسکی خدمات کی قدر دان تھی۔ اس نے اس کی خدمات کو ممنونیت سے تسلیم کیا۔ عَرَّف ہ ہ: کو کا اعلان کرنا، کو سے مطلع کرنا، کو سے آگاہ کرنا، ــ ہ ب / الی: کو سے متعارف کرنا، کا سے تعارف کرانا، کی سے ملاقات کرانا، ــ ہ ب: کسی کو کسی کے روبرو پیش کرنا۔ ــ ہ: کی تعیین کرنا، کو معین کرنا، ممیز کرنا، واضح کرنا، کی تعیین کرنا، کی تفصیلات دینا، کی صراحت کرنا۔ ــ ہ: (اسم) کو معرفہ بنانا۔ ــ ہ: پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، توبہ کرنا، کا اعتراف گناہ سننا۔ تَعَرَّفَ ب / الی او علی: سے آگاہ ہونا، کا شناسا ہونا۔ ــ الی / ب: سے ملنا۔ ــ الی: کو اپنی شناخت بتانا، پر اپنا آپ ظاہر کرنا۔ ــ الی / علی: سے آگاہ ہونا، واقف ہونا۔ ــ ہ: پر خوب غور کرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا، کا کھوج لگانا، کا سراغ لگانا کو دریافت کرنا، تَعَارَفَ: ایک دوسرے سے واقف ہونا، ــ ب: سے آگاہ ہونا۔ ــ ہ: کے بارے میں معلوم کرنا۔ إعْتَرَفَ ہ: کا اعتراف کرنا، کو تسلیم کرنا، کا اقبال کرنا۔ ــ ب: کو تسلیم کرنا قبول کرنا، ماننا۔ ــ ب ل: کی وصولی کی کو اطلاع دینا۔ ــ: اعتراف گناہ کرنا۔ ــ بالجمیل: شکر گزار ہونا۔ عَرْف: خوشبو۔ عُرْف: احسان، مہربانی، رسم، رواج، محاورہ الفاظ کا استعمال، روایت، دستور کا قاعدہ، عادت، ریت، رسم، قانون رواج جمع أَعْرَاف: کلغی، ایال، فی عُرفِه: اس کی عادت کے مطابق، اس کی رائے میں، جیسا کہ اس کی عادت تھی۔ العُرْف السیاسی: پروٹوکول Protocol۔ عُرْفی: روایتی، رواجی، رسمی، تقلیدی، معمول کے مطابق، حسب عادت، معمولاً، عام عادی، نجی، غیر سرکاری، الحکمُ العُرفی: مارشل لاء۔ الاحکام العُرفیة: مارشل لاء۔ مَحْكَمَةٌ عُرفِيَة: کورٹ مارشل (Court martial) عَرِیف ب: سے واقف، آگاہ۔ ــ: ماہر، اتھارٹی، سپیشلسٹ، معاون استاد، مانیٹر (Monitor)، سارجنٹ، کارپورل (Sergeant Corporal) رئیسُ العُرَفَا: ماسٹر سارجنٹ (Master Sergeant) نائب عریف: کارپورل (Corporal) جمع عِرْفَان: استاد۔ عَرَّاف: غیب دان، نجومی، جوتشی، قسمت کا حال بتانے والا۔ عَرَّافة: قسمت کا حال بتانے والی۔ عِرَافَة: قسمت کا حال بتانے والے کا پیشہ، غیب دانی، جوتش، عَرَفَات: ایک پہاڑ اور ملحقہ میدان کا نام جو مکہ معظمہ سے چار گھنٹوں کے فاصلہ پر واقع ہے، جہاں حاجی لوگ ذوالحجہ کا نواں دن گزارتے ہیں۔ عِرْفان: علم ادراک، قوت مدرکہ، عِرفان الجمیل: احسان مندی، تشکر، شکر گزاری، عِرفان الفضل: احسان مندی، شکر گزاری، تشکر، المعارف: ثقافتی امور، تعلیم۔ بمعرفة: بذریعہ مع المعرفة: جان بوجھ کر، دیدہ دانستہ، وزیر المعارف العمومیه: وزیر تعلیم۔ لم یکن معرفةً فی قومه: وہ اپنے لوگوں میں غیر معروف تھا۔ مَعَارف: چہرہ، صورت، شکل، حلیہ، تیور، چہرہ مہرہ۔ بطاقَة التعریف: شناختی کارڈ۔ تَعْرِیفة: اطلاع، اعلان۔ تعریفات و تعاریف: نرخنامہ، محصول نامہ، درآمد و برآمد کا تاٹینی محصول اعترافًا ب: کی قدر افزائی کے طور پر۔ ابو الاعتراف: اعتراف گناہ سننے والا پادری۔ سِرُّ الاعتراف: کفارہ کی رسم۔ مُعَلِّمُ الاعتراف: اعتراف گناہ سننے والا پادری۔ من الاعتراف ان: یہ بات تسلیم کی جانی چاہئے کہ، مسلم طور پر عَارِف: صاحب نظر ماہر، عظیم فنکار، عَارِفة: دانا، فرزانہ، حکیم، کسی گاؤں یا قبیلہ کا مرد دانا۔ بالمعروف یا بمعروف: (کامل) انصاف سے، مناسب شائستگی کے ساتھ، دوستانہ طور پر، آشتی سے، ناکر المعروف: ناشکرا، احسان ناشناس۔ المعروف ان: یہ بخوبی معلوم ہے کہ، جیسا کہ اچھی طرح معروف ہے۔ جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مُتَعَارَف یا متعارف علیه: عام، حسب عادت، حسب معمول، رواجی، عام جو ہر ایک جانتا ہے، معمولی، غیر اہم، فرسودہ، بہت ہی عام، مبتذل، معمولی، پیش پا افتادہ۔ مُعْتَرَف به: منظور شدہ، مقبول، تسلیم شدہ، لائسنس یافتہ، بااختیار۔

عرق: ۱۔ عَرَقَ ـُ عَرْقًا و مَعْرَقًا العظمَ: ہڈی کے اوپر سے سارا گوشت کھا جانا۔ کہتے ہیں۔ عَرَقَتْهُ الخطوبُ: مصائب نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عُرِقَ عَرْقًا: کم گوشت ہونا۔ تَعَرَّقَ العظمَ: دانتوں سے کاٹ کاٹ کر ہڈی سے گوشت اتار لینا۔ کہتے ہیں تَعَرَّقَتْهُ الخطوبُ: مصائب نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ إعْتَرَقَ العظمَ: ہڈی کا سارا گوشت کھا جانا۔ العَرْق (مص): جمع عِراق و عُراق: ہڈی جس سے بیشتر گوشت اتار لیا گیا ہو۔ العَرْقَة: گوشت کا ٹکڑا۔ العُرَاق: ہڈی جس کا گوشت کھا لیا گیا ہو۔ العَوَارِق: داڑھیں۔ المِعْرَق: چھری وغیرہ جس سے ہڈی کا گوشت اتاریں۔ رَجُلٌ مُعَرَّقٌ و مَعْرُوقُ العِظام: دبلا آدمی۔

۲۔ عَرَقَ ـُ عَرْقًا و مَعْرَقًا الطریقَ: راستہ طے کرنا۔ ــ عَرْقًا و عُرُوقًا فی الأرض: زمین میں سفر کرنا۔ عَرَّقَ الشجرُ: درخت کا لمبی جڑوں والا ہونا۔

عَرَقَ الرجلُ خاندانی شریف ہونا۔ ـــ الشجرُ درخت کا لمبی جڑوں والا ہونا۔ تعرّق و اعترق و استعرق الشجرُ درخت کا لمبی جڑوں والا ہونا۔ العِرق جمع عُروق و أعراق و عِراق ہر چیز کی اصل، دشوار گزار پہاڑ، چھوٹا پہاڑ (ضد)، دودھ، ریت کی باریک اور لمبی دھاری۔ ـ من البدن: رگ، داء عِرقِ النساء (طب) اعصابی درد جو ران سے شروع ہوکر گھٹنے یا قدم تک پہنچتا ہے۔ العَرَق: دودھ، پہاڑ کے راستے، اونٹوں کے ایک قطار میں چلنے کے نشان (کہا گیا: وقد نسجن في الفلاة عَرَقاً: اونٹوں نے وسیع بیابان میں تیز تیز چل کر نشان بنا دیئے)، دوڑ، کہتے ہیں۔ جرى الفرسُ عَرَقاً او عرقين: گھوڑا ایک یا دو مرتبہ دوڑا۔ العَرَقة: پہاڑ کے راستے۔ العِرقَةُ جمع عِرق و عِرقات و العَرُقاة و العِرقاة: اصل، درخت کی جڑ کا ریشہ۔ الأعرَق: صاحب اصل، کہتے ہیں۔ هو اعرقُ منك في كذا: وہ فلاں چیز میں تم سے زیادہ صاحب اصل ہے۔ العَريق و المُعرِق: جس کی شرافت یا کمینہ پن میں اصل ہے۔ غلام عَرِيق: دبلا پتلا لڑکا۔

۳۔ عرِق ـــ عَرَقاً: پسینہ آنا صفت۔ عَرِقان ـــ الحائطُ: دیوار تر ہونا۔ عرّقَ هُ کو پسینہ لانا۔ ـــ الخمرَ: شراب میں تھوڑا سا پانی ملانا۔ ـــ الإناءَ: برتن میں تھوڑا سا پانی ڈالنا۔ ـ التينَ الجافَّ خشک انجیر کو گرم پانی سے ابالنا۔ تاکہ محفوظ رکھا جاسکے۔ أعرقَ الخمرَ و الإناءَ شراب اور برتن میں تھوڑا سا پانی ڈالنا۔ تعرّقَ الخمرَ شراب میں تھوڑے سے پانی کی ملاوٹ کرنا۔ اِستعرقَ: پسینہ کے لئے گرمی میں بیٹھنا۔ العِرقُ جمع عُروق و أعراق و عِراق تھوڑا سا پانی، جسم۔ العَرَق (مص): پسینہ، دیوار کی نمی، شراب، (انگور وغیرہ کی)۔ ـــ من التمر کھجور کا رس، عَرَقُ الخلال دوست کا عطیہ کہتے ہیں۔ لقيتُ منه عَرَق القِربة و تجشّمتُ اليك عَرَق القِربة: شدت اور مشقت سے کنایہ مطلب یہ کہ میں نے اس سے مشقت اٹھائی جس طرح مشک اٹھانے والا اٹھاتا ہے کہ اس کو بوجھ کی وجہ سے پسینہ آجاتا ہے۔ میں نے تمہاری وجہ سے بڑی مصیبت جھیلی۔ العُرَق و العُرَقة جس کو بہت پسینہ آئے۔ العَرقة اسم مرہ۔

۴۔ عرُق ـ عَرَقاً الرجلُ سست ہونا۔

۵۔ أعرقَ الرجلُ عراق میں جانا، اعترقَ القومُ عراق میں جانا۔ العراق ایک ملک کا نام۔ ـــ و أعرِقة و عُرُق و عُرُق: طول میں سمندر کا ساحل۔ العِراقان: کوفہ و بصرہ۔

۶۔ العِرق جمع عُروق و أعراق و عِراق: شورزمین۔ اولاد کثیر۔ العَرَق: دیوار میں کچی اینٹوں یا پتھروں کی قطار، عام لوگ اسے مدماک کہتے ہیں۔ العَرَقة جمع عَرَق و عَرَقات: دیوار پر پتھروں یا کچی اینٹوں کی قطار گھوڑوں یا پرندوں کی قطار، شہتیر، دھنی خیمہ کے اردگرد کا پھندنا۔ العِراق جمع أعرِقة و عُرُق و عُرُق پر کا جوف۔ ـ من الدار گھر کا صحن۔ ـ من الظُفر ناخن کے آس پاس کا گوشت۔ ـ من الأذن کان کا گھیرا۔ ـ من النهر ندی کا کنارہ۔ العُراق شدید بارش۔ عُراقُ الغيثِ بارش کے بعد نمودار ہونے والی روئیدگی۔ العُراقَة: شدید بارش العَرُقاة: ڈول کے منہ کی لکڑی۔ العَرقُوة جمع العَراقي: ڈول کے منہ کی لکڑی۔ العَرَقِيَة: عمامہ اور ٹوپی کے نیچے پہنا جانے والا کپڑا۔

۷۔ عَرقَبَ الرجلُ حیلہ کرنا۔ تعرقَبَ حیلہ کرنا، پہاڑی راستوں پر چلنا۔ ـ عن الامر سے باز رہنا۔ ـــ لخصمه دشمن کے لئے مخفی طریقہ اختیار کرنا۔ العُرقُوب جمع عَراقيب وادی کا موڑ، پہاڑی راستہ، حیلہ، بہانہ۔ عَراقيبُ الأمُور مشکل اور بڑے کام۔

۸۔ عَرقبَ الدابّةَ جانور کی کونچیں کاٹنا، جانور کو کھڑا کرنے کے لئے اس کی کونچیں اٹھانا۔ العُرقُوب جمع عَراقيب (ع ا): کونچ، ایڑی کے اوپر کا پٹھا۔

۹۔ تعَرقَبَ: عرقوب کے مانند ہونا۔ عُرقُوب: عرقوب ایک شخص کا نام جو جھوٹ اور وعدہ خلافی میں مشہور تھا۔ کہتے ہیں اخلف من عُرقوب: عرقوب سے زیادہ وعدہ خلاف۔ مواعيدُ عُرقوب عرقوب کے وعدے۔

۱۰۔ عَرفَصَ الغلامُ لڑکے کا ناچنا۔ ـــ ت الحيةُ سانپ کا رینگنا۔

۱۱۔ عَرقَل توسط سے ہٹ جانا۔ ـ الامرَ کو دشوار کرنا۔ ـ عليه الكلامَ کی بات کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا۔ تعرقَلَ الامرُ پیچیدہ ہونا۔ و ـــ الكلامُ بات کا توڑ مروڑا ہوا ہونا۔ العرقال گمراہ، کج رو۔ العَراقِيل مصائب۔ عَراقِيلُ الأمُور دشوار معاملات۔

۱۲۔ العِرقِيلُ انڈے کی زردی۔ العَرقَلى: نازکی چال۔

(ن) عرقَ ـ عرقاً ـ کو پسینہ آنا۔ عرّقَ هُ کو پسینہ دلانا، کو پسینہ آنے دینا، کا پسینہ بڑھانا۔ ـ ہ (مشروب) میں پانی ملانا، کو پانی ملا کر ہلکا کرنا۔ ـ کا جڑ پکڑنا، کی جڑیں گہری ہونا۔ ـ ط پر ابری لگانا۔ أعرقَ کا جڑ پکڑنا، اگنے لگنا، جم جانا، مستحکم ہونا۔ تعرّقَ جڑ پکڑنا۔ اگنے لگنا، جم جانا مستحکم ہونا، عِرق جمع عُروق۔ جڑ (پودے کا) تنہ، (پتے کی) ڈنڈی، رگ، خاندانی، موروثی یا وراثتی مزاج، طبیعت افتاد طبع، میلان، نسل، اصل، پشت، پیڑھی، عِرق سُوس ملٹھی، طيب العِرق شریف النسل۔ طَيِّب العِرق: شریف النسل، (اعلیٰ) خاندانی العِرق رَسّاس: خون بتائے گا۔ ضرب فيه بعرق: میں حصہ دار ہونا، میں شریک ہونا۔ عَرَق: پسینہ۔ عَرَق القِربة: مشقتیں، مشقت، عَراقة: جڑوں کا گہرا ہونا۔ قدیم جدی سلسلہ، قدیم خاندان۔ عراقة في النسب: عالی خاندان، عَريق گہری جڑوں والا۔ عريق في القِدَم: قدیم، صدیوں کا، صدیوں پرانا، من عائلة عَريقة: ایک قدیم اور معزز خاندان کا عريق النسب: عالی خاندان کا، خاندانی۔ أعرَق: زیادہ گہری جڑوں والا۔ مَعرُوق: پتلا دبلا، نحیف نزار (چہرہ، ہاتھ وغیرہ)۔ مُعَرِّق: پسینہ زیادہ کرنے والا۔ پسینہ آور۔ مُعرِق في القِدَم: بہت قدیم، صدیوں کا، صدیوں پرانا، عَرقَبَ ہ جانور کی کونچیں کاٹنا۔ عُرقوب: ایک مشہور جھوٹ بولنے والا۔ اكذب من عرقوب: عرقوب سے بھی بڑھ کر جھوٹا۔ عُرقوبی: جھوٹا، فریبی (وعدہ)۔ عَرقَل ہ/ہ کو مشکل بنانا، پیچیدہ کرنا، روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، روڑا اٹکانا، رکاوٹ ڈالنا، کو دیر لگانا، میں تاخیر کرنا، دیر کرانا، کو روکے رکھنا۔ ـ ہ کو ضبط کرنا، قرق کرنا، کو باڑے میں بند کرنا۔ تعرقَل مشکل ہونا، سنگین ہونا، پیچیدہ ہونا، رکنا۔ موخر ہونا۔ عَرقلة: روکنا، روڑے اٹکانا، راہ میں حائل ہونا، جمع عَراقيل: رکاوٹ، مشکل۔

عرک ۱۔ عَرَكَ ـُ عَرْكاً الاديمَ: چمڑے کو ملنا۔ ـــ الشيءَ: کو رگڑ رگڑ کر مٹا دینا۔ ـ ہ الدهرُ: زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنا دینا کہتے ہیں۔ عَرَكَ الأذى بجنبه: اس نے مشقت اٹھائی۔ عَرِكَ ـ عَرَكاً جنگ سے حملہ آور ہونا۔ صفت عَرِك۔ عارَكَ مُعارَكةً و عِراكاً: سے لڑنا اور مقابلہ کرنا۔ کہتے ہیں۔ اوردَ الله عِراكاً: وہ سارے اونٹوں کو پانی پر لایا۔ تعرّكَ الشيءُ ملا جانا۔ تعارَكَ الرجلان آپس میں لڑنا، اِعترَكَ ت الابلُ في الوِرد: اونٹوں کا گھاٹ پر بھیڑ کرنا۔ ـ القومُ: لوگوں کا باہم قتال کرنا، آپس میں لڑنا، جنگ کرنا۔ ـ الناسُ في المعركة و الخصومة لوگوں کا میدان جنگ میں قتل و قتال کے لئے پل پڑنا۔ ـ الرجالُ في الحرب: جنگ میں انبوہ کرنا اور ایک

دوسرے کو رگڑنا۔ العَرْکۃ: اسم مرۃ کہتے ہیں۔ لقیتُہٗ عَرْکَۃً و عَرَکَاتٍ: میں اس سے ایک بار اور بار بار ملا۔ العُرَکۃ: مشقت برداشت کرنے والا۔ رمل عَرِیك: ملی ہوئی جمع شدہ ریت۔ العَرِیکَۃ جمع عَرَائِك: کوہان، نفس، کہتے ہیں۔ فلانٌ لیّنُ العریکۃ: وہ نرم خو ہے۔ ھو شدیدُ العریکۃ: وہ سخت مزاج ہے۔ المُعَارِك (فا): لڑنے والا، جنگجو، جنگ میں سخت قتال کرنے والا، المَعْرَك و المَعْرَکۃ و المَعْرُکۃ جمع مَعَارِك: جنگ، میدان جنگ۔ المُعْتَرَك: میدان جنگ۔ مُعْتَرَكُ المنایا: ساٹھ ستر کے درمیان انسانی عمر۔ ماءٌ مَعْرُوك: پانی جہاں بھیڑ ہو۔ رمل مَعْرُوك: ایک دوسرے میں داخل جمع شدہ ریت۔

۲۔ عَرَكَ ـُ عَرْکَاتِ الماشیۃُ النباتَ: جانوروں کا ساری نباتات کو کھا جانا۔ ـــ الماشیۃُ الارضَ: جانوروں کا زمین کو چارہ سے خالی کر دینا۔ ارضٌ مَعْرُوکۃٌ: وہ زمین جسے جانوروں نے چر کر خالی کر دیا ہو۔

۳۔ العَرَك و العَرَك: آواز، العَرَکِی جمع عَرَك و جج عُرُوك: مچھلی کا شکاری۔ اس لئے ملاحوں کو عَرَك کہا جاتا ہے۔

۴۔ عَرْکَسَ الشیْئُ: تہ بہ تہ ہونا۔ ـــ الشیْئَ: کو تہ بہ تہ کرنا۔ اِعْرَنْکَسَ: جمع ہونا، تہ بہ تہ ہونا۔ ـ الشَعْرُ: بالوں کا سخت سیاہ ہونا۔

○ عَرَكَ ـُ عَرْکًا ہ: کو رگڑنا، مانجھنا، صیقل کرنا۔ ـ ہ (ریڈیو وغیرہ کے) لٹو، بٹن گھمانا، کو مطابق یا موافق کرنا۔ ـــ ہ کو تباہ و برباد کرنا، کو سخت نقصان پہنچانا، عَرِكَ ـَ عَرَکًا: لڑائی میں قوی ہونا، سخت لڑنے والا، جنگجو، یا نبرد آزما ہونا۔ عارَكَ ہ: کے ساتھ لڑنا، جدوجہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، مقابلہ کرنا۔ تَعَارَكَ: لڑائی میں مشغول ہونا، ایک دوسرے سے قتال کرنا۔ اِعْتَرَكَ بمعنی تعارك۔ عَرْك (مصائب جھیل کر حاصل کیا ہوا) تجربہ۔ عَرْکَۃ: لڑائی، جدوجہد، جنگ، مقابلہ عَرِیکۃ: طبع، مزاج، افتاد طبع، طبیعت، مَعْرَکَۃ و مَعْرُکَۃ جمع مَعَارِك: میدان جنگ، لڑائی۔ عِرَاك: جدوجہد، لڑائی، قتال، مقابلہ، جھگڑا۔ مُعْتَرَك: میدان قتال، میدان جنگ۔

عرم: ۱۔ عَرَمَ ـُ عَرْمًا العظمَ: ہڈی سے گوشت اتارنا۔ ـــ الصبیُّ اُمَّہٗ: بچے کا ماں کا دودھ پینا۔ ـ الإبلُ الشجرَ: اونٹوں کا درخت کے پتے کھانا۔ تَعَرَّمَ العظمَ: ہڈی سے گوشت اتارنا۔ اِعْتَرَمَ الصبیُّ ثدیَ اُمِّہٖ: بچے کا ماں کے پستان کو چوسنا۔

۲۔ عَرَمَ ـِ عُرَامًا: متشدد ہونا، حد سے تجاوز کرنا۔ ـ عَرْمًا الکتابَ: کتاب کی جلد بندی کرنا۔ عَرِمَ ـَ و عَرُمَ ـُ عَرَامَۃً: متشدد ہونا، حد سے نکلنا۔ عَرَّمَ الترابَ: مٹی کا ڈھیر بنانا۔ عَرَّمَ فلانٌ: تکبر سے پھولنا۔ صفت۔ مُعَرَّم (سریانی لفظ) یومٌ عارِمٌ: نہایت ٹھنڈا دن۔ العَرَم و العُرْمَۃ و العَرَمَۃ: گیہوں کا ڈھیر۔ العرمۃ جمع عَرِم: وادی کے عرض میں بنا ہوا پشتہ۔ شدید بارش۔ العُرام من الجیش: فوج کی تیزی و کثرت۔ العَرَمْرَم: سخت، عظیم لشکر۔

۳۔ عَرَمَ ـُ عَرْمًا فلانًا: کو تکلیف پہنچانا۔ ـ عُرَامًا و عَرِمَ ـَ عَرُمَ ـُ عَرَامَۃً: شوخ ہونا، بدخلق ہونا، خوش ہونا، خراب ہونا صفت۔ عارِم و عَرِم۔ تَعَرَّمَ علینا: پر، بہت زیادہ خوش ہونا اور اکڑنا۔ اِعْتَرَمَ الفرسُ: گھوڑے کا دور دور قدم رکھنا اور منہ زور ہونا، جھکنا۔ العَارِم (فا) جمع عَرَمَۃ م عارِمَۃ جمع عوارِم و عارِمات: بدخلق، موذی۔ العُرام من الرجلِ: بدخلقی، ایذا، کہتے ہیں۔ بہ شِرَّۃٌ و عُرام: اس میں ایذا دہی اور بدخلقی ہے۔

۴۔ عَرَّمَ الشیئَ: کو خلط ملط کرنا۔ العَرَم و العُرْمَۃ: سیاہی سپیدی ملی ہوئی، چھوٹے چھوٹے سیاہ و سپید نقطے۔ الأعْرَم جمع عُرمان و جج عَرامین: رنگ برنگ، غیر مستقل، جزوی طور پر رنگدار، داغ دھبے دار، بھیڑ یا بکریوں کا ریوڑ، العَرْماء: اعرم کا مونث (ح): چتی دار سانپ۔

۵۔ أعْرَمَ ہٗ: پر ایسی بات کی تہمت لگانا جو اس نے نہیں کی۔

۶۔ العَرَم و العُرام: ہانڈی کا میل۔ العَرِیم جمع عُرْمان: مصیبت۔ الأعْرَم جمع عُرمان و جج عَرامین: غیر مختون۔

○ عَرَّمَ ہ: کا ڈھیر لگانا۔ اِعْتَرَمَ: برا ہونا، ضدی، سرکش، ہٹ دھرم، ہٹیلا، ہٹ کا پکا، یا منہ زور ہونا، خود سر ہونا، عَرِم: برا، مضبوط، قوی، سخت، بے قابو، متشدد، شدید، قوی، طاقت ور، خوفناک، ہولناک، دہشت ناک، پستہ، بند، جیشٌ عَرِم: بڑی فوج، عُرام: برائی، بدخلقی، تشدد، سختی، شدت، سیلٌ عُرام: بڑی مقدار، ہولناک مہیب سیلاب۔ عَرَمۃ جمع عَرَم: ڈھیر، بیشتر حصہ، بڑی مقدار، انبوہ، ازدہام ـــ عارِم: بڑا، طوفانی، طوفان خیز، سخت، متشدد، قوی، ہولناک، مہیب، عظیم بہت بڑا، بہت وسیع، بہت ضخیم، عَرَمْرَم: قوی، سخت، متشدد۔ جیشٌ عَرَمْرَم: بہت بڑا لشکر۔

عرن ۱۔ عَرَنَ ـــ عَرْنًا السهمَ: تیروں کو ترتیب سے رکھنا۔ ـ البعیرَ: اونٹ کی ناک میں لکڑی ڈالنا، عَرَنَ الرمحَ: نیزے میں میخ لگانا۔ العِرَان: اونٹ کی ناک میں ڈالی جانے والی لکڑی، نیزے کی میخ۔ العِرنین جمع عرانین: پورا ناک، ناک کا پورا یا سخت حصہ، سردار۔ ـ من کل شیئ: ہر چیز کا پہلا حصہ۔

۲۔ عَرَنَ ـُ علی الشیئ: کا عادی ہونا۔

۳۔ عَرَنَ ـُ عِرَانَاتُ الدارِ: گھر کا دور ہونا۔ العِران: دوری۔

۴۔ عَرِنَ ـــ عَرَنَاتِ الدابۃُ: جانور کو عرنہ کی بیماری لگنا۔ صفت عَرُون و عَرِنَۃ: (مونث کیلئے) اور عَرِن (مذکر کے لئے)۔ العَرَن و العِران و العُرُنَۃ (طب): بیماری جس میں جانور کے پچھلے پاؤں کے بال گر جاتے ہیں یا اس کے اگلے پچھلے پاؤں کی پھٹن۔

۵۔ أعْرَنَ الرجلُ: ہمیشہ گوشت کھانا۔ العَرَن: پکا ہوا گوشت۔ دھواں۔

۶۔ العِران: بجو کا بھٹ، ہمسر لڑائی، العَرِین: آواز، شکار، عزت، ـــ جمع عُرُن: گھر کا صحن، درختوں کا جھنڈ، جھاڑی۔ ـــ و العَرِینۃ جمع عرائن: شیر، بجو، سانپ اور بھیڑیے کی پناہ گاہ۔

۷۔ العِرناس جمع عرانیس (ح): کبوتر جیسا ایک پرندہ، پہاڑ کا باہر نکلا ہوا حصہ۔ لکڑی یا لوہے کی چیز جس پر عورت روئے کے گالے کو لپیٹ کر کاتتی ہے۔ عرانیس الذرۃ: جوار بھٹے۔ عام لوگ اسے عَرنوس کہتے ہیں۔

○ عَرِین: جھاڑی، بن، شیر کا بھٹ، عَرِینۃ جمع عَرائِن: جنگلی جانور کا بھٹ، عِرْنِین جمع عَرانِین: ناک کا بالا حصہ، ناک کا بانسہ۔ عِرناس جمع عرانیس: سلائی دار پونی۔ عِرناسُ ذرۃ بکئی (شام میں)۔

عرا: ۱۔ عَرَا ـــ عَرْوًا فلانًا امرٌ: کو کوئی بات پیش آنا۔ ـــ فلانًا: عطیہ مانگنے کے لئے کے پاس جانا۔ صفت فاعلی عار، صفت مفعولی مَعْرُوّ۔ عُرِیَ: کو بخار کی سردی لگنا۔ صفت عارٍ جمع عُراۃ و مَعْرُوّ ـــ الرجلُ: خوف سے کپکپانا۔ اِعْتَرَی اعتراءً فلانًا: عطیہ مانگنے کیلئے کسی کے پاس جانا۔ ـــ ہٗ امرٌ: کو لاحق ہونا۔ العُرَواء: بخار کی سردی۔

۲۔ عَرَا ـــ عَرْوًا القمیصَ: کرتے میں کاج بنانا۔ عَرَّی و أعْرَی القمیصَ: کرتے میں کاج بنانا۔ العُرْوَۃ جمع عُرًی: گنجان درخت۔ قابل اعتماد چیز، کہتے ہیں۔ ألقی علیہ العُرَی: اس نے فلاں کو معاملہ سپرد کیا۔ وہ درخت جس کے پتے سردیوں میں نہیں گرتے اور لوگ گھاس نہ ملنے کی وجہ سے ان پر

بھروسہ کرتے ہیں۔نفیس مال۔ ۔ الابریق ونحوہ: چھاگل اور لوٹے کا دستہ۔ ۔ والعُری والعِریُ من الثوب: کاج۔

۳۔ أَعْرَی صاحبَہ: اپنے ساتھی کو چھوڑ دینا۔ العِرو جمع أعراء: وہ شخص جو معاملات کا اہتمام نہ کرے۔ کہتے ہیں۔ انا عِروٌ من کذا: میں فلاں چیز سے خالی ہوں۔ العُرْوَۃ: کہتے ہیں۔ انا عُروۃٌ منہ: میں اس سے خالی ہوں۔

۴۔ العِروُ جمع اَعْراء: گوشہ، لوگوں کا گروہ، کہتے ہیں۔ بھا اعراءٌ من الناس: وہاں لوگوں کے کئی گروہ ہیں۔

○ عَرا ُ عَرْوًا و اِعْتَرٰی ہ: کو گرفت میں لینا، ایذا دینا، تکلیف میں ڈالنا، کے پاس آنا، پر آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، کو پیش آنا، پر قبضہ کرنا۔ عُرْوَۃ جمع عُرًی: کاج، پھندا، کنڈلی، بچ، پیچا، کنڈل، بل، گھونگر، دستہ (جگ وغیرہ کا) تعلق، رشتہ، بندھن، عُری الصداقۃ: دوستی کے رشتے، تعلقات، تائید، سہارا، آسرا۔ العُرْوَۃ الوُثقی: مضبوط، قابل اعتماد گرفت، قبضہ، پکڑ، مضبوط رشتہ۔

عری: ا۔ عَرِیَ ـَ عَرْیًا ہُ الامرُ: کو معاملہ پیش آنا۔ اِعْرَوری اِعْرِیراءً امرًا قبیحًا: برا کام کرنا۔

۲۔ عَرِیَ ـَ عُرْیَۃً وعُرْیًا و من ثیابہ: اپنے کپڑے اتارنا، ننگا ہونا صفت عَارٍ و عُرْیَان م عَارِیۃ و عُریانۃ جمع مذکر عُراۃ جمع مونث عَوارٍ و عاریات۔ ۔ من العیب وغیرہ: عیب وغیرہ سے پاک ہونا، بے عیب ہونا صفت عَرٍ۔ عَرَّی تَعْرِیَۃً الرجُلَ الثوبَ و من الثوب: کے کپڑے اتار ڈالنا، کو ننگا کر دینا۔ ۔ ہ من الامر: کو سے علیحدہ کرنا، چھڑا لینا۔ ۔ الرجُلَ: کو نظر انداز کرنا، چھوڑ دینا۔ أَعْرَی إعراءً الرجُلَ الثوب و من الثوب: کے کپڑے اتار دینا، کو ننگا کر دینا۔ ۔ الرجُلُ: کھلے میدان میں کھڑا ہونا یا چلنا۔ ۔ فلانًا صدیقُہُ: اپنے دوست سے دور ہو جانا اور اس کی مدد نہ کرنا۔ تَعَرَّی تَعَرِّیًا من ثیابہ: اپنے کپڑے اتار ڈالنا، ننگا ہو جانا۔ اِعْرَوری اِعْرِیراءً: تنہا سفر کرنا۔ ۔ الفرسَ: کی ننگی پیٹھ پر سوار ہونا۔ فرسٌ عُرْیٌ جمع أَعْراء: بغیر زین کا گھوڑا، ننگی پیٹھ والا گھوڑا، العَرَی: گوشہ، میدان۔ العراء جمع أَعْراء: کھلی فضا جس میں چھپنے کی کوئی چیز نہ ہو۔ العَرَاۃ: میدان، صحن۔ لا عُراء واحد عُرِیٌّ: بے پرواہ لوگ۔ العُرْیَۃ نعُرْبَۃ: ننگا پن۔ العُریان: ننگا، جس نے کپڑے اتار دیئے ہوں۔ عُریان النجِیِّ: جو اپنے بھید کو نہ چھپائے۔ عریاناتُ البزُور (ن): ایک قسم کا پودا۔ المَعْرَی والمَعْرَاۃ جمع مَعَار: ننگا پن، بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں سے نہ چھپایا جائے جیسے ہاتھ چہرہ وغیرہ۔ المَعَارِی: بچھونے، بنجر مقامات۔

۳۔ عَرِیَ ـ عُرِیَ ت اللیلۃ: رات کا ٹھنڈا ہونا، أعری إعراءً الرجُلُ: کو رات کی ٹھنڈ لگنا۔ العَری: ٹھنڈ، سردی۔ العَرَاۃ: سردی کی شدت۔ العَرِی: ٹھنڈی یخ ہوا۔ العَرِیّۃ جمع عَرَایا: ٹھنڈی یخ ہوا۔

۴۔ عَرَّی تعریۃ الشیئَ: کو دستہ لگانا کہتے ہیں۔ عرَّاہ بعُریً وثیقۃ: اس نے اس کو مضبوط دستہ لگایا۔

۵۔ أعْرَی اعْراءً فلانًا النخلۃَ: کو ایک سال کے کھجور کے درخت کا پھل ہبہ کرنا۔ العَرِیّۃ جمع عرایا: کھجور کا درخت جس کا پھل کھالیا گیا ہو۔ کھجور کا درخت جس کے مالک نے دوسرے کو پھل کھانے کیلئے دیدیا ہو۔ کہتے ہیں۔ نخلھم عرایا: ان کے کھجور کے درخت ہبہ شدہ ہیں۔ جنہیں وہ دوسروں کو سخاوت کے طور پر دے دیتے ہیں۔ العَارِیۃ: ادھار لی ہوئی چیز۔

○ عَرِیَ ـَ عُرْیًا وعُرْیَۃً: ننگا ہونا۔ ۔ عن: سے آزاد ہونا، سے بے نقاب ہونا، عری عن (من) ثیابہ: اپنے کپڑے اتار دینا، ننگا ہونا، بے لباس ہونا۔ عری عن کل اساس: بالکل بے بنیاد ہونا۔ عَرَّی ہ: کو برہنہ کرنا، بے لباس کرنا، ۔ ہ کو ننگا کرنا، بے نقاب کرنا۔ ۔ سے اوپر کی مٹی یا خس و خاشاک ہٹانا یا دور کرنا۔ ۔ ہ من ثیابہ: کے کپڑے اتروا دینا۔ ۔ ہ من: کو سے محروم کرنا۔ عُرْی: ننگا پن، برہنگی، بے زین گھوڑا۔ عُرْیَۃ: ننگا پن، برہنگی، عَراء: ننگا پن، برہنگی، کھلی جگہ، کھلا ملک۔ فی العراء: کھلی ہوا میں۔ کھلے آسمان کے نیچے، باہر، گھر سے باہر، میدان میں۔ مسرح فی العراء: اوپن ایئر تھیٹر Open air theater۔ عُرْیان جمع عَرایا: ننگا، برہنہ، بے لباس۔ عریانٌ مَلْط: بالکل ننگا، مادرزاد برہنہ۔ عُرْیَانِیۃ: وسن عریانی، عریانیت (nudism)۔ المَعارِی: جسم کے ان ڈھکے حصے جیسے ہاتھ۔ پاؤں، چہرہ، عارٍ: ننگا، برہنہ، بے لباس۔ پابندی سے آزاد، بلا روک ٹوک؛ سے خالی، محروم (عن یا من کے ساتھ) عاری الاقدام: ننگے پاؤں۔

عز: ا۔ عَزَّ ـِ عِزًّا و عِزَّۃً وعَزازَۃً: معزز و عزیز ہونا، قوی ہونا۔ ۔ عِزًّا علیہ: پر گراں قدر ہونا، قیمتی ہونا۔ عَزَّزَہ: کو طاقت ور بنانا، معزز بنانا، کی عزت کرنا۔ أعَزَّ اِعْزَازًا ہُ: سے محبت کرنا، کو عزیز بنانا۔ تَعَزَّزَ: قوی ہونا۔ ۔ بہ: پر فخر کرنا۔ اِعْتَزَّ: قوی ہونا۔ ۔ بہ: سے اپنے آپ کو طاقت ور سمجھنا، پر فخر کرنا، پر اترانا، کا شرف حاصل ہونا۔ العِزُّ: (مصدر) عزت، العَزیز جمع عِزاز و اَعِزّاء و أعِزَّۃ: شریف، معزز۔ الأعَزّ اسم تفضیل، عزیز۔ العُزَّی: اعز کا مونث، عزیزہ، شریف۔

۲۔ عَزَّ ـِ عِزًّا و عِزَّۃً وعَزازَۃً: قوی ہونا، کمزور ہونا۔ الشیئُ: دشوار ہونا، کہتے ہیں۔ عَزَّ علیَّ ان تفعل کذا: مجھ پر یہ بات گراں ہے کہ تم ایسا کرو۔ ۔ ُ عَزَّہُ: کو قوی کرنا، طاقت ور بنانا، پر عزت کی کوشش میں غالب ہونا۔ عَزَّزَہُ: کی مدد کرنا۔ عازَّ مُعازَّۃً ہُ: کا حصول عزت میں مقابلہ کرنا، پر گفتگو میں غالب ہونا۔ أعَزَّتِ البقرۃُ: گائے کا وضع حمل دشوار ہونا، کہتے ہیں أُعْزِزْتُ بما اصابک: جو تم پر گزری مجھے اس پر تکلیف ہوئی۔ تَعَزَّزَ لحمُہُ: کے گوشت کا سخت اور ٹھوس ہونا۔ اِعْتَزَّ علی فلان: پر بزرگی جتانا اور غالب آنا۔ اِسْتَعَزَّ علیہ: پر سختی کرنا، غالب آنا۔ کہتے ہیں اِسْتَعَزَّ بحقی: وہ میرے اوپر غالب آگیا۔ ۔ اللّٰہُ بفلان: اللہ کا کسی کو موت دینا۔ کہتے ہیں۔ استُعِزَّ بالعلیل: کی بیماری کا بڑھ جانا اور اس کی عقل پر غالب آنا۔ رجُلٌ عَزٌّ: طاقت ور آدمی، کہتے ہیں۔ جیءَ بہ عَزًّا وبَزًّا: جس طرح ہو سکے اسے لے آؤ۔ العِزَّۃ (مص): مقابلہ حصول عزت میں غالب آنا، غیرت۔ العَزیز جمع عِزاز و أعِزّاء وأعِزَّۃ: قوی، بادشاہ، جس کا حصول دشوار ہو اور کسی سے مغلوب نہ ہو سکے نہ کوئی اسے عاجز کر سکے اور اس جیسا کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک نام، مصر کے حاکم کا لقب۔ العَزّاء: سختی، سخت سال۔ المِعْزاز: سخت مرض والا۔ المَعْزُوزۃ: سخت۔

۳۔ عَزَّ ـِ عِزًّا وعِزَّۃً و عَزازَۃً الشیئُ: قلیل ہونا، کمیاب ہونا۔ العَزیز جمع عِزاز وأعِزّاء وأعِزَّۃ: نادر۔

۴۔ عَزَّ ـِ عِزًّا و عِزَّۃً و عَزازَۃً الماءُ: پانی کا بہنا۔ العِزُّ: سخت بارش۔ العَزّاء: بڑی بوند کی بارش۔ المَعْزُوزَۃ: وہ زمین جس پر سخت بارش ہوئی ہو۔

۵۔ العُزَّۃ (ح): ہرن کا مادہ بچہ۔ العُزّٰی: قریش کے ایک بت کا نام (مونث)۔

۶۔ عَزْعَزَۃ ُ: پر غیرت میں غالب آنا۔

○ عَزَّ ـِ عِزًّا و عِزَّۃً و عَزازَۃً: طاقت ور، مضبوط یا محترم ہونا یا ہو جانا، نادر، کم یا نایاب ہونا یا ہو جانا، پیارا، دلارا، عزیز، محبوب، محترم، آنکھ کا تارا، قیمتی، گراں بہا ہونا یا ہو جانا (علی کیلئے)۔ عَزَّ علیہ اَن: اسے افسوس ہے کہ ...... کے لئے سخت یا مشکل ہونا۔

ـ علی: کونقصان پہنچانا، تکلیف دینا، کیلئے تکلیف دہ ہونا، پرگراں ہونا۔ عَزَّزَ ہٗ/ھٗ کومضبوط کرنا، قوی بنانا، کمک پہنچانا، کو مستحکم کرنا، کی قلعہ بندی کرنا، کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا، کو جمانا، ٹھوس بنانا، کوتقویت پہنچانا، سخت کرنا، کوآگے بڑھانا، کابوجھ اٹھانا، کواٹھائے رکھنا، کاسہارا ہونا، کی تائید کرنا، حمایت کرنا۔ ــہٗ: کی عزت کرنا، کا احترام کرنا، کو سرفراز کرنا، کو اونچا کرنا، بلند کرنا، اٹھانا، کومحبوب بنانا، پیارا یا لاڈلا بنانا، کوعزیز رکھنا۔ عَزَّزَ جانبہ: کومضبوط کرنا، کمک پہنچانا، کی قلعہ بندی کرنا، کوٹھوس بنانا، جمانا، مستحکم کرنا، کومضبوط طاقت ور بنانا۔ اَعَزَّ ہٗ/ھٗ: کومضبوط کرنا، طاقت ور بنانا، مضبوط کرنا، کوتقویت پہنچانا، سخت کرنا، سے محبت کرنا، کی عزت کرنا، توقیر کرنا، احترام کرنا، کی قدر کرنا، کو بہت عزیز رکھنا یا جاننا، کومحبوب بنانا۔ تَعَزَّزَ: مضبوط، طاقت ور، سخت، ٹھوس، مستحکم ہونا یا ہوجانا۔ ــب: پر فخر کرنا، پراترانا۔ اِعْتَزَّ ب: کی وجہ سے خود کو قوی یا طاقت ور محسوس کرنا۔ پر فخر کرنا، اترانا۔ اِسْتَعَزَّ علی: پر غالب آنا۔ ــــ: طاقت ور ہوجانا، محترم و معزز ہو جانا۔ ــہٗ: کوعزیز ومحبوب بنانا، یا سمجھنا، کی ازحد قدر کرنا، کی عزت کرنا، توقیر کرنا احترام کرنا۔ عِزّھا: ہر ہائی نس Her Highnes، فی عِزّ شبابہ: کے عنفوان شباب میں۔ عِزَّۃ الجانب: طاقت، قوت، العِزّۃ القومیۃ: قومی افتخار۔ عِزۃ النفس: خودداری صاحبُ العِزّۃ: ایک "بے کا" خطاب۔ عَزیزُ الجانب: قوی۔ طاقت ور، مضبوط۔ اَعَزّ: زیادہ قوی، زیادہ طاقت ور، زیادہ مضبوط۔

عزب: ۱۔ عَزَبَ ـُ عُزُبۃً و عُزُوبۃ: کنوارا ہونا۔ اُعْزَبَ ہٗ: کو بے بیوی بنانا۔ تَعَزَّبَ: مجرد رہنے کے بعد شادی کرلینا۔ العَازِبۃ جمع عَوازِب: عازب کا مونث۔ بیوی العَزَب جمع عُزّاب و اَعْزاب: وہ مرد یا عورت جس کی بیوی یا شوہر نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں جس مرد کی بیوی نہ ہو اسے عَزَب اور جس عورت کا شوہر نہ ہو اسے عَزَبۃ کہا جاتا ہے۔ الأعْزَب م عَزْباء جمع عُزْب و العزیب: جس کے اہل وعیال نہ ہوں۔ المِعْزَبَۃ: باندی، لونڈی۔ المُعْزِبۃ: بیوی۔ المِعزابۃ: جس کے اہل وعیال نہ ہوں، جوعرصہ تک کنوارہ رہے۔

۲۔ عَزَبَ ـِ عُزُوبًا: دور ہونا، غائب ہونا، پوشیدہ ہونا صفت عَازِب۔ ــت الارضُ: زمین ویران ہونا، یعنی جہاں کوئی نہ ہو۔ عَزَّبَ: دیر تک غائب رہنا، شروع کئے ہوئے کو چھوڑ دینا۔ اَعْزَبَ: دور ہونا۔ ــ ہٗ: کو دور کرنا۔ العازب (فا): دور کی چراگاہ۔ العَزِیب: وہ مرد جو اپنے اہل اور مال سے دور ہو۔ المِعْزاب والمِعْزابۃ: جو شخص اپنے جانوروں کو چرانے دور لیجائے۔

۞ عَزَبَ ـُ عُزُوبًا عن: سے دور ہونا۔ کے ذہن سے نکل جانا عزب عن الاذھان: فراموش ہوجانا، بالکل بھولا ہوا ہونا، نگاہ تغافل کا شکار ہونا۔ عَزَبَ ـُ عُزبۃً و عُزُوبۃً: اکیلا ہونا، غیر شادی شدہ ہونا۔ عَزَب جمع عُزّاب و اَعْزاب: مجرد، غیر متاہل، اکیلا، غیر شادی شدہ، کنوارہ۔ عِزبۃ جمع عِزَب: دیہات میں زمینی جائیداد، فارم (Farm)، دیہاتی حویلی۔ مُعَزَّب: شیخ، امیر (بخد)

عزج: عَزَجَ ـُ عَزْجًا الرجُلَ: کو دور کرنا۔ ـ الأرض بالمسحاۃ: بیلچے سے زمین کو الٹ پلٹ کرنا۔

عزر: ۱۔ عَزَرَ ـِ عَزْرًا ہٗ: کوملامت کرنا، کی مدد کرنا۔ ــ ہٗ عن کذا: کو سے منع کرنا۔ عَزَّرَہٗ: کوملامت کرنا، کی تادیب کرنا، کو بہت مارنا، کی تعظیم کرنا، کی مدد کرنا۔ العَزَوَّر والعَزَوَّر: بدخلق۔ العَزَوَّرَۃ: عَزَوّر کا مونث

۲۔ عَزَرَ ـِ عَزْرًا ہٗ علی الأمر: کوکی خبر دینا۔ ــ ہٗ علی الفرائض والاحکام: کو فرائض واحکام سے واقف کرنا۔

۳۔ العَزْوَرَۃ: ٹیلہ۔ العَزائِر: لکڑیاں، درختوں کا بقایا (بغیر واحد کے جمع ہے)۔

۞ عَزَرَ: کسی سے تعلق کا انکار کرنا۔ عَزَّرَ: کسی سے تعلق کا انکار کرنا۔ عَزَرَہ: کوملامت کرنا۔ کوملامت کرنا، کو سرکاری طور پر سرزنش کرنا۔ عَزَّرَہ: کوملامت کرنا، سرکاری طور پر سرزنش کرنا۔ تعزیر: ملامت، سرکاری سرزنش، تادیب، گوشمالی۔ اعتزار: ذاتی انضباط۔ عِزرائیل: موت کا فرشتہ۔

عزف: ۱۔ عَزَفَ ـِ عَزْفًا و عَزِیفًا: آواز نکالنا، گانا۔ عَزَّفَ: آواز نکالنا۔ اَعْزَفَ: ہوا اور ریت کی سرسراہٹ سننا۔ تَعازَفُوا: ایک دوسرے کے سامنے رجز پڑھنا۔ آپس میں فخر کرنا، ایک دوسرے کی ہجو کرنا۔ العَازِف ہوسیقار، موسیقی کے آلات بجانے والا، گویا العَزف: دُف کی آواز۔ عَزْفُ الریاح: ہوا کی سرسراہٹ۔ عَزفُ الجنّ و عَزِیْفُھا: بیابانوں میں سنی جانے والی سرگوشیاں، جن کی وجہ سے ریت کے ٹیلے گر جاتے عربوں کو یوں معلوم ہوتا جیسے کہ وہ جنوں کی آوازیں ہیں۔ العُزف (ح) صحرائی کبوتر۔ العَزّاف: عازف کا اسم مبالغہ۔ سحابٌ عَزّاف: بہت گرجنے والا بادل۔ العَزّاف بھی عَزَفَ۔ المِعْزَف۔ والمِعْزَفۃ (مو): گانے بجانے کے آلات۔ آلات موسیقی۔ المَعْزُوفۃ جمع مَعْزوفات (مو): موسیقی کا ٹکڑا جس کے ساتھ گانا نہ ہو۔

۲۔ عَزَفَ ـِ عَزْفًا و عُزُوفًا نفسہ عن الشیء: سے بے رغبتی کرنا، ملول ہونا۔ ــ نفسَہٗ عن کذا: اپنے آپ کو سے منع کرنا، روکنا۔ العَزُوف و العَزُوفۃ جمع عِزاف: جو شخص دوستی پر قائم نہ رہے کہتے ہیں۔ ھو عَزُوفٌ عن اللھو: وہ لہو ولعب سے دور رہتا ہے۔

۳۔ اِعْزَوْزَفَ للشر: برائی کیلئے آمادہ ہونا۔

۞ عَزَفَ ـِ عَزْفًا علی: موسیقی کا کوئی آلہ بجانا۔ ــ ہٗ: کوئی دھن بجانا، کوئی طرز نکالنا۔ عزف ل: کیلئے ساز بجانا، کیلئے کوئی نغمہ گانا۔ ــ ـِ عَزفا و عُزُوفا عن: سے ہٹ جانا، کا مخالف ہونا، سے بچنا، کنی کترانا۔ ــ ان: کچھ کرنے سے باز رہنا۔ عَزُوف عن: سے تنفر، بیزار، کا مخالف۔ مِعْزَف جمع مَعازِف: پیانو۔ عازف: سازندہ، مطرب۔

عزق: ۱۔ عَزَقَ ـُ عَزْقًا الخبرَ عنّی: سے خبر روک لینا۔

۲۔ عَزَقَ ـُ عَزْقًا: تیز دوڑنا۔ ــ ہٗ ضربًا: کو خوب پیٹنا۔

۳۔ عَزَقَ ـِ عَزْقًا الارضَ: زمین کو کھودنا، زمین سے پانی نکالنا۔ العَزِیق من الارض: پست زمین۔ المِعْزَق والمِعْزَقۃ: کھودنے کا اوزار، جیسے پھاوڑا، کدال، بیلچہ۔

۴۔ عَزِقَ ـَ عَزَقًا بہ: سے چمٹنا۔

۵۔ العَزِق جمع عُزُق: بداخلاق۔ العَزُوق والعَزَوَّق: پستہ، بے مغز۔ رجُلٌ عَزُوقٌ: سخت مزاج بخیل، بدعادت۔ المِعْزَق والمِعْزَقۃ جمع مَعازِق: ہوا میں اڑا کر گیہوں کو صاف کرنیوالا آلہ۔ المُتَعَزِّق: بداخلاق۔

۞ عَزَقَ ـِ عَزْقًا الارضَ: مٹی کی قلائی کرنا، کوترانا، کھرپنا، کھودنا، توڑنا، کھولنا، مِعْزَقۃ جمع مَعازِق: کھرپا، کدال۔

عزل: عَزَلَ ـِ عَزلا ہٗ عن کذا: کو سے جدا کردینا۔ فلانًا عن منصبہ: کو اس کے منصب سے علیحدہ کرنا۔ ــ ہٗ عن عملہ: کو اس کے کام سے باز رکھنا۔ عَزَّلَ ہٗ: کو ایک جانب کردینا۔ تَعَزَّلَ و اِعْتَزَلَ الشیءَ و عنہ: سے جدا ہوجانا۔ تَعازَلَ القومُ: ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ اِنْعَزَلَ عنہ: سے ایک جانب ہونا۔ العَازِل (ف): حاجز غیر موصل Insulator وہ چیز جو بجلی یا حرارت کے سرایت کرنے میں مانع ہو، چنانچہ

خشک لکڑی بجلی اور حرارت کو سرایت کرنے سے روکنے والی ہے اور شیشہ بجلی کا حاجز ہے۔ العُزْل و العِزَال: کمزوری۔ العَزَل: نہتا ہونا۔ عَزَلُ الحمار: گدھے کا پچھلا حصہ۔ العُزُل جمع أعْزَال: نہتا۔ العُزْلَة: جدائی، گوشہ تنہائی، تنہائی۔ العُزَال: مُعْتَزِلَة۔ الأعْزَلُ م عَزْلاَء، جمع عُزْل اعْزَال و عُزَّل و اعْزُلان: ریت کا اکیلا ڈھیر۔ بادل جو بارش نہ کرے، نہتا، جس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو۔ (فلك): دو میں سے ایک ستارے کا نام دوسرا رامح ہے۔ اس کا نام اعزل اسلئے پڑا کیونکہ اسکے سامنے کواکب میں سے کوئی ستارہ نہیں ہوتا اس طرح جس طرح نہتا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ ـ من الطير: وہ پرندہ جو اڑ نہ سکے۔ ـ من الدواب: دم کو عادتاً جھکا کر رکھنے والا جانور۔ العَزْلاء جمع العَزَالی و العَزَالى: اعزل کا مونث، سرین، مشک وغیرہ کا منہ۔ کہتے ہیں۔ انزلت السماءُ عَزَالِيَها: آسمان نے دہانے کھول دیئے۔ یعنی موسلادھار بارش ہوئی۔ هو عن الحق بمَعْزِلٍ: وہ حق سے دور ہے۔ المُعْتَزِلَة: قدریہ کی ایک جماعت جو اس بات کے قائل تھے کہ وہ اہل سنت اور خوارج سے اس لئے علیحدہ ہوئے کہ ان کے دعوی کے مطابق یہ دونوں اہل سنت و خوارج گمراہی پھیلاتے ہیں۔ المِعْزال جمع مَعَازيل: اپنے مویشیوں کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہو کر چرانے والا۔ وہ شخص جو سفر میں دوسرے لوگوں سے علیحدہ اترے۔ خود رائے۔ نہتا۔ جس کے پاس ہتھیار نہ ہوں۔ کمزور احمق۔

○ عَزَلَ ـِ عَزْلاً ه / ه عن: کو سے دور کرنا۔ ہٹانا، ایک طرف کرنا، کو سے علیحدہ کرنا، الگ تھلگ کرنا، کو سے روکنا۔ ـ ه: کو معزول کرنا، کے اختیارات چھین لینا۔ کو تخت سے اتارنا۔ ـ عن منصبه: کو اس کے عہدہ سے سبکدوش کرنا، برخاست کرنا، الگ کر دینا۔ اعْزَلَ منصبَه: اپنا منصب چھوڑ دینا۔ استعفیٰ دے دینا، مستعفی ہو جانا۔ اِنْعَزَلَ عن: سے تنہا ہونا، یا ہو جانا، علیحدہ ہونا یا ہو جانا، جدا ہونا یا ہو جانا۔ إعْتَزَلَ: دور رہنا، تنہا کھڑا ہونا، چھوڑ دینا، دست بردار ہونا۔ ـ ه / ها عن: سے ریٹائر ہو جانا، سے ہٹنا، اپنے آپ کو سے الگ رکھنا، تنہائی میں رکھنا، سے جدا ہو جانا، سے قطع تعلق کرنا، سے اظہار بیزاری کرنا، سے الگ ہو جانا، سے علیحدگی اختیار کر، کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ ـ معزورل ہونا، یا ہو جانا۔ ـ الخدمةَ و ـ العملَ: ملازمت سے ریٹائرڈ ہو جانا، کام سے ریٹائرڈ ہو جانا، سبکدوش ہو جانا۔ عَزْل: ہٹانا، ہٹنا، علیحدگی، قطع تعلق، ایک طرف کرنا، علیحدہ کرنا، جدا کرنا، معزول، برخاستگی، سبکدوشی، حَائِطُ عَزْلِ الحَرْق: آگ کی دیوار غير قابل للعزل: جسے ہٹایا نہ جاسکے۔ تاحیات۔ تعنیّات (جج)، عَزَلَ: بے بسی، نہتاپن، عُزْلَة: علیحدگی، تنہائی، آرام، خلوت، گوشہ نشینی، الگ تھلگ کرنا، گوشہ تنہائی، علیحدگی، منفصل کرنا، حجز، الگ کرنا، جدا کرنا، حاجز درمیان میں رکھنا، تنگ نظری، فی عُزْلَةٍ عن: سے الگ تھلگ، سے علیحدہ، سے جدا، عِزْلَة جمع عِزَل: یمن کی ایک تحصیل، عِزَال: فرنیچر، منقولہ چیزیں، اسباب، سامان، اَعْزَل م عَزْلاء جمع عُزْل: غیر مسلح، بے ہتھیار، نہتا، بے بس، بلا دفاع، السماك الاعزل: ستاروں کے جھرمٹ میں ایک ستارہ۔ مَعْزِل جمع مَعَازِل: گوشہ نشینی کی جگہ، تنہائی، خلوت، الگ تھلگ جگہ، علیحدگی (ہسپتال میں) علیحدہ رکھنے کا وارڈ۔ بمعزل عن: سے جدا، علیحدہ، عَازِل، و عازلة جمع عَازلات و عوازل: انسولیٹر Insulator (حاجز) غير مُوصِل: Non conductor۔ إنْعَزَالِيَة: علیحدگی پسندی Isolationism۔ انعزال: علیحدگی، اعتزال: سبکدوشی، تنہائی، خلوت، گوشہ نشینی، مَعْزُول عن: سے دور، جدا، معزول، علیحدہ، منعزل: جدا، اکیلا، تنہا، یکا و تنہا، نادر الوقوع، شاذ، کبھی کبھار کا۔ المُعْتَزِلة: ایک دینیاتی مدرسہ فکر جس نے اسلام میں قیاس پر مبنی ادعا پسندی کو رائج کیا۔ مُعْتَزَل: گوشہ تنہائی، علیحدگی اور آرام کی جگہ۔

عزم: ۱۔ عَزَمَ ـِ عَزْمًا و عُزْمًا و مَعْزَمًا و مَعْزِمًا و عَزِيمًا و عَزْمَةً و عَزِيمَةً و عُزْمانًا الامرَ و عليه: کا دل میں پختہ ارادہ کرنا۔ ـ الرجُلُ: کوشش کرنا۔ ـ الامرُ: واجب ہونا۔ تَعَزَّمَ الامرَ و على الامرَ: کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ إعْتَزَمَ الامرَ و عليه: کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ ـ الطريقَ: راستے سے بغیر ٹھہرے گذر جانا۔ ـ الفرسُ فی عِنَانِه: گھوڑے کا سرکشی کرنا، العَازِم جمع عَزَمَة و عازمون فا، امرٌ عازِمٌ: وہ کام جس کا پختہ ارادہ کیا گیا ہو۔ العَزْم (مص): پختہ ارادہ۔ نیت العَزْمَة جمع عَزَمات: حق، واجب، کہتے ہیں۔ ماله عَزْمَةٌ: اس کو اس بات پر جس کا اس نے پختہ ارادہ کر رکھا ہے، ثبات و صبر نہیں۔ عَزَمات الله: اللہ کی طرف سے لوگوں پر واجب کئے ہوئے حقوق و فرائض۔ العَزّام: عازم کا صیغہ مبالغہ۔ شیر۔ العَزْمِيّ: عزم سے منسوب، عہد کو پورا کرنے والا۔ العَزُوم: اپنے عزم پر قائم رہنے والا۔ العَزِيم (مص): تیز دوڑ۔ العَزِيمَة (مص) جمع عَزَائِم: پختہ ارادہ۔ عَزَائم الله: اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر فرض کئے گئے حقوق و فرائض۔

۲۔ عَزَمَ ـِ عَزْمًا و عُزْمًا و مَعْزَمًا و مَعْزِمًا و عَزِيمًا و عَزْمَةً و عَزِيمَةً و عُزْمانًا فلانٌ على فلان: فلاں کا فلاں سے التجا کرنا، کہتے ہیں۔ فلاں کا فلاں سے قسم لینا۔ عزمتُ عليك لتفعلنَّ او الاَّ فعلتَ او لمّا فعلتَ: میں نے تم سے قسم لی تھی کہ تم ضرور کرو گے؟ یا نہیں کرو گے، یا جب کرو گے۔ عَزَّمَ الراقی: ساحر کا منتر پڑھنا۔ العَزِيمَةُ جمع عَزَائِم: منتر۔ المُعَزِّم فا: ساحر، جادوگر، منتر پڑھنے والا۔

۳۔ العُزْمَة جمع عُزَم: خاندان، قبیلہ، العَزِيمَة جمع عَزَائم: کھانے کی دعوت یا پارٹی میں شرکت کی دعوت، عام زبان میں اس لفظ سے فعل بنا کر کہا جاتا ہے۔ عَزَمه فهو عازم والمدعو معزوم: اس نے اس کو دعوت دی۔ دعوت دینے والے کو عازم اور مدعو کو معزوم کہتے ہیں۔ العَزُوم: دبر۔ ـ جمع عُزُم: بڑھیا عورت

○ عَزَمَ ـِ عَزْمًا و عَزِيمَةً على: کرنے کا فیصلہ کرنا، پختہ ارادہ کر لینا، پر تل جانا، کو قسم دینا، سے قسم لینا، سے واسطہ دیکر التجا کرنا، ـ ه على / ان: کو کوئی دعوت دینا، کو کچھ کرنے کی دینا۔ عَزَّمَ على: پر جادو کرنا، سحر کرنا، کو مسحور کرنا۔ إعْتَزَمَ ه / على: کو کرنے کا فیصلہ کرنا یا پختہ ارادہ کرنا پر تلا ہونا۔ عَزْمَة: فیصلہ، پختہ ارادہ۔ ـ ب: کو کرنے کا سخت حکم۔ عزومة: دعوت بلاوہ۔ خاص ضیافت، بڑی دعوت۔

عزا: ۱۔ عَزَا ـُ عَزْوًا الشیءَ او فلانًا الی فلان: کو سے منسوب کرنا۔ کی سے نسبت کرنا۔ ـ و تَعَزَّى تَعَزِّيًا و إعْتَزَى إعْتِزَاءً لفلان و إلى فلان: سے منسوب ہونا، اپنے آپ کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا خواہ یہ سچ ہو یا جھوٹ۔ اسم عَزَاء اس سے ہے إعْتَزَى بعَزَاء الجاهلية: اس نے اپنے آپ کو جاہلیت سے منسوب کیا۔ العِزَة جمع عِزًى عِزُون: لوگوں کا ایک گروہ۔ العِزْوَة: انتساب عام لوگ کہتے ہیں۔ هو صاحبُ عِزْوَة: وہ ایسے لوگوں سے منسوب ہے جو اس کی پشت پناہی کرتے ہیں۔

۲۔ عَزَ ـُ عَزَاءً الرجُلُ: صبر کرنا۔ العِزْوَة: صبر۔

○ عَزَا ـُ عَزْوًا و عَزَى ـِ عَزْيًا ه الی / ل: کی اصل کا پتہ لگانا، کھوج لگانا، سراغ لگانا، کو سے منسوب کرنا، کو سے نسبت دینا، کو پر محمول کرنا، کو کا باعث قرار دینا، کے لئے کا مرہون منت یا رہین منت ہونا۔ (کسی جرم) کا

پرالزام لگانا۔ کا پرالزام دینا۔ عَزِیَ ۔ عَزاءً و عَزاً ۔ عَزاءً: صبر کرنا۔ عَزَّی ہ فی / عن: کو پرصبر کرنے کی تلقین کرنا، کی تعزیت کرنا۔ ۔۔ ہ عن: پرکو تسلی دینا، پرکی دلجوئی کرنا، پرکو دلاسا دینا، پرکے آنسو پونچھنا، ۔۔ ہ: کو تسلی دینا، سے ہمدردی کا اظہار کرنا، سے تعزیت کرنا۔ تَعَزَّیٰ: صبر کرنا۔ ۔۔ عن: کے لئے خود کو تسلی دینا، دلاسا دینا۔ اِنْعَزیٰ ب: سے خود کو تسلی دینا، میں تسلی وتسکین حاصل کرنا۔ اِعْتَزیٰ اِلی: اپنی اصل سے منسوب کرنا۔ حَسَنُ العِزوۃ: خاندانی۔ عزاء: اطمینان، سکون دلجمعی، دلاسا، تسلی، تشفی، دل جوئی، ڈھارس، تسکین، ماتم۔ تعزیۃ: دلاسا، تسلی، تشفی، ڈھارس، تسکین، پرسا، ماتم پرسی، تعزیت۔ رفع تعزیتہ: اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا۔ قَدَّمَ التعازی: تعزیت کرنا۔ مُعَزٍّ: تعزیت کرنے والا، ڈھارس بندھانیوالا، تسلی دینے والا۔

عزی: ۱۔ عَزیٰ ۔ عَزْیًا الشیءَ او فلانا الی فلان: کی سے نسبت کرنا۔ کو سے منسوب کرنا۔ تَعَزّیٰ تَعَزِّیًا الیہ: سے منسوب ہونا۔ العِزیۃ: انتساب۔ الاعتزاء (مص): دعوی کرنا۔

۲۔ عَزِیَ ۔ عَزاءً: مصیبت پرصبر کرنا صفت مذکر عَزٍ صفت: مونث۔ عَزِیَۃ۔ عَزَّیٰ تَعْزِیَۃً الرجُلَ: کو تسلی دینا۔ تَعَزّیٰ تَعَزِّیًا عنہ: پرصبر کرنا، سے تسلی حاصل کرنا۔ تَعازَیٰ تَعازِیًا القومُ: ایک دوسرے کو تسلی دینا۔ العَزِیّ: صابر۔

۳۔ الاِعْتِزاء: جنگ میں کوئی خاص علامت۔

عس: ۱۔ عَسَّ ۔ عَسًّا وعَسَسًا: رات کو پاسبانی کرنا۔ اِعْتَسَّ: رات کے وقت مشتبہ لوگوں پر مطلع ہونا۔ ۔۔ الشیءَ: رات میں کو طلب کرنا یا اس کے پاس جانا۔ ۔۔ البلدَ: شہر میں داخل ہونا اور حالات سے مطلع ہونا۔ العاسّ جمع عَسَس و عَسِیس: رات کا پاسبان، چوکیدار العَسَس: عاس کی جمع رات کو پاسبانی کرنے والے اور مشتبہ لوگوں کا پتہ لگانے والے۔ العَسّاس: رات کا پاسبان بھیڑیا۔ العَسُوس: شکار کا متلاشی۔ العَسّیّ: رات کا پاسبان (عام زبان میں) المَعَسّ: درخواست، عرضی۔

۲۔ عَسَّ ۔ عَسًّا و عَسَسًا الخبرُ: خبر دیر سے پہنچنا۔

۳۔ عَسَّ ۔ عَسًّا وعَسًّا القومَ: لوگوں کو تھوڑا کھانا کھلانا۔ العَسُوس: بے برکت مرد۔

۴۔ العُسّ جمع عِساس و عِسَسۃ و اَعْساس و عُسس: بڑا پیالہ، بڑا برتن۔ العَسُوس: دودھ دوہتے وقت بدکنے والی اونٹنی۔

۵۔ عَسْعَسَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا، رات کا گزرنا۔ ۔۔ السحابُ: بادل کا زمین کے قریب آجانا۔ ۔۔ الامرَ: بات کو مشتبہ کر دینا، معمی بنا دینا۔ تَعَسْعَسَ الذئبُ: بھیڑیے کا رات کو گھومنا۔ العَسْعَس والعَسْعاس: بھیڑیا، جو رات میں شکار کا متلاشی ہو۔

۶۔ عَسْعَسَ الشیءَ: چیز کو حرکت دینا۔ العسعاس: سراب، ہلکی چیز۔

۷۔ تَعَسْعَسَ الشیءَ: کو سونگھنا۔

عسب: ۱۔ أعْسَبَ الذئبُ: بھیڑیے کا بھاگ جانا۔ اِسْتَعْسَبَ منہ: کو ناپسند کرنا۔

۲۔ أعْسَبَ ہ جَمَلَہُ: کو اونٹ عاریت پر دینا، کو اونٹ کرائے پر دینا۔ اِسْتَعْسَبَ فلانًا جملَہ: سے اونٹ عاریت پر لینا۔ العَسْبَۃ: اسم مرہ۔

۳۔ العَسْب: نسل، کہتے ہیں قطع اللہ عَسْبَہ: اللہ اس کی نسل منقطع کرے۔ العَسْبَۃ: پہاڑ میں شگاف۔

العَسُوب: بڑا سردار۔ العَسِیب جمع عُسُب وعُسُب وعُسْبان: دم کی ہڈی، یا وہاں پر بال اگنے کی جگہ۔ پشت پا، وہ کھجور کی ٹہنی جس کے پتے توڑ دیئے گئے ہوں۔ پہاڑ میں شگاف۔ الیَعْسُوب جمع یَعاسِیب (ح): شہد کی مکھیوں کا بادشاہ شہد کی نر مکھی، بڑا سردار (کہتے ہیں۔ ھو یعسوبُ قومہ: وہ اپنی قوم کا بڑا اور سردار ہے)۔ ایک چھوٹا پرندہ، گھوڑے کے چہرے کی سفیدی (ح) ایک چار بازوؤں کا کیڑا جو پانی پر پھڑ پھڑاتا ہے۔

۴۔ العُسْبُر جمع عَسابِر (ح): چیتا۔ العُسْبُرۃ: مادہ چیتا۔ تیز رفتار اصیل اونٹنی۔ العِسْبار (ح): بجو کے مشابہ ایک درندہ جو افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ بھیڑیے کا بچہ۔ العُسْبُور و العُسْبُورۃ (ح): مادہ بھیڑ سے کتے کا بچہ۔

○ عَسِیب: (گھوڑے کی) دم کی ہڈی، جمع عُسُب: کھجور کے درخت کی شاخ جس کے پتے اتار دیئے گئے ہوں۔ یَعْسُوب جمع یعاسیب: شہد کی نر مکھی، ممتاز شخص، سربراہ، رہنما۔

عسج: ۱۔ عَسَجَ ۔ عَسْجًا وعَسَجانًا و عَسِیجًا: چلتے ہوئے گردن اٹھانا، گردن اٹھا کر چلنا۔ اِعْسَجَّ الشیخُ: بوڑھے آدمی کی کمر کا ٹیڑھا ہونا۔ العَوْسَج: واحد عَوْسَجۃ کا (ن) ایک کانٹے دار جھاڑی، جو باڑ کا کام دیتی ہے۔

۲۔ العَسْجَد: سونا، جواہرات جیسے موتی یاقوت، العَسْجَدِیَّۃ: شاہی سواریاں، دراصل ان اونٹوں کو کہا جاتا تھا جو نعمان بن منذر شاہ حیرہ کے لئے تیار کئے جاتے تھے۔

۳۔ عَسْجَرَ الطعامَ: کھانے میں نمک ڈالنا۔ العَسْجَر: نمک۔

۴۔ عَسْجَرَ الرجلُ: تیز نظر سے دیکھنا۔

○ عَسْجَد: سونا۔ عَسْجَدِیّ: سنہری مُعَسْجَد: مُلَمَّع، سنہری۔

عسد: عَسَدَ ۔ عَسْدًا الحبلَ: رسی کو مضبوط بٹنا۔ العِسْوَدّ: بہت مضبوط (ح) سانپ۔

عسر: عَسَرَ ۔ عِسَرًا و عُسْرًا الزمانُ: زمانہ کا سخت ہونا۔ ۔۔ الغریمَ: قرضدار سے روپیہ طلب کرنا جب کہ وہ تنگدست ہو۔ ۔۔ علیہ مافی بطنہ: جو کچھ پیٹ میں ہو اس کا مشکل سے نکلنا۔ ۔۔ علی فلان: کا مخالف ہونا، کی مخالفت کرنا۔ ۔۔ ۔۔ عَسْرًا و عَسَرانًا ت المرأۃُ: پرولادت کا دشوار ہونا۔ عَسِرَ ۔ عُسْرًا و عُسُرًا و عَسَرًا و مَعْسُورًا و عَسُرَ ۔ عُسْرًا و عَسارۃً: دشوار ہونا، مشکل ہونا کہتے ہیں۔ عَسُرَ علیہ الامرُ: پرکام مشکل ہونا۔ ۔۔ الرجلُ: بد خلق ہونا صفت عَسِیر و عَسِیر۔ عَسَّرَ علیہ: کا مخالف ہونا، کی مخالفت کرنا، کو تنگ کرنا۔ و ۔ الامرَ: کو دشوار کرنا۔ عاسَرَ مُعاسَرَۃً ہ: سے تنگی کا معاملہ کرنا۔ اَعْسَرَ: تنگ دست ہونا۔ ۔۔ الغریمَ: قرضدار سے اس کی تنگدستی کے وقت قرض ادا کرنے کا تقاضا کرنا۔ ۔۔ ت المرأۃ: عورت پر بچہ جننا مشکل ہونا، دشوار ہونا۔ تَعَسَّرَ علیہ الامرُ: پرمعاملہ دشوار ہونا، پیچیدہ ہونا۔ ۔۔ علیہ القولُ: پربات کا مشتبہ ہونا۔ تَعاسَرَ علیہ الامرُ: پرمعاملہ دشوار ہونا، پیچیدہ ہونا۔ ۔۔ علیہ القولُ: پربات کا مشتبہ ہونا۔ ۔۔ البیّعان: بائع اور مشتری کا متفق نہ ہونا۔ اِعْتَسَرَ ہ: کو مجبور کرنا۔ ۔۔ الکلامَ: فی البدیہ کہنا۔ اِسْتَعْسَرَ الامرَ: کو دشوار پانا۔ ۔۔ الامرُ علیہ: پرمعاملہ سخت و پیچیدہ ہونا۔ العُسْر و العُسُر: تنگدستی، سختی، تنگی، العُسْرۃ و المَعْسَرۃ و المَعْسُرۃ: تنگی، سختی۔ الأعْسَر: کہتے ہیں۔ یومٌ اَعْسَرُ: سخت دن، منحوس دن۔ العُسْریٰ: اَعْسَر کا مونث، تنگی، دشواری۔ المُعْسِر: قرضدار پر تنگی کرنے والا۔ المَعْسُور: تنگ حال۔

۲۔ عَسَرَ ۔ عَسْرًا ہ: کے بائیں طرف سے آنا۔ عَسِرَ ۔ عَسَرًا: بائیں ہاتھ سے کام کرنا، صفت اَعْسَر م عَسْراء جمع عُسْر۔ عَسَرَہُ: کے بائیں طرف سے آنا۔ الأعْسَر: بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔ عام لوگ اسے عسر اوی کہتے ہیں۔ فلانٌ عَسَرٌ یَسَرٌ فلاں شخص دونوں ہاتھ سے کام کرنے والا ہے۔

۳۔ عَسَرَ ـِ عَسْرًا وعَسَرانًاتِ الناقةُ: اونٹنی کا دوڑتے وقت دم اٹھانا۔

⊙ عَسُرَ ـُ عُسْرًا و عُسُرًا و عَسِرَ ـَ عَسَرًا علی: کیلئے مشکل ہونا، دشوار ہونا، صبر آزما ہونا، تکلیف دہ ہونا، ناموافق ہونا، نامساعد ہونا، عَسَرَ ـِ ـُ عَسْرًاہ علی۔ پر کیلئے زور دینا، کو مجبور کرنا۔ عَسَّرَ ہ: کو مشکل اور سخت بنا دینا۔ ـ علی: سے دشمنی کرنا، کو کچلنا، ستانا، کیلئے تکلیف دہ ہونا، کو رنج یا تکلیف یا مصیبت پہنچانا، پر بہت بوجھ ڈالنا۔ عَاسَرہ: کے ساتھ سخت سلوک کرنا۔ أَعْسَرَ: مصیبت یا تکلیف میں ہونا، مشکل میں ہونا، ناگوار صورت یا خطرناک صورت حال میں ہونا، مفلس ہو جانا، تنگ دست ہو جانا، مالی مشکلات میں پھنس جانا، مشکلات میں مبتلا ہونا۔ تَعَسَّرَ علی: کے لئے مشکل ہونا، دشوار ہونا، صبر آزما ہونا، تکلیف دہ ہونا، ناموافق ہونا، نامساعد ہونا۔ تَعَاسَرَ بمعنی تَعَسَّرَ إِسْتَعْسَرَ بمعنی تَعَسَّرَ تیز ـ ہ: کو مشکل، دشوار، صبر آزما، تکلیف دہ یا ناموافق اور نامساعد پانا۔ عُسْر: مشکل، صبر آزما یا تکلیف دہ اور تنگدستی کی صورت حال، حالت زار، ناگوار، صورت حال، خطرناک صورت حال، برا حال، بری حالت، پریشانی، سخت مشکلات، عسرت، مفلسی، غربت، تنگدستی، بے نوائی، افلاس۔ عُسْرَةٌ بمعنی عُسْر ـ عَسِر: دشوار، مشکل، صبر آزما، تکلیف دہ، پریشان کن، ناموافق، نامساعد۔ عَسِير: مشکل، دشوار، سخت، کرخت، حجاز اور یمن کے مابین جنوب غربی سعودی عرب میں ایک پہاڑی ضلع کا نام۔ أَعْسَر: کھبچو، زیادہ سخت، زیادہ مشکل۔ مَعْسَرَةٌ بمعنی عُسْر ـ إِعْسَار: غربت، افلاس، مالی مشکلات، دیوالیہ ہونا، دیوالیہ پن، تَعَسَّر: مشکل، مَعْسُور: مشکل حالات میں (رہنے والا) مُعْسِر: مشکل حالات میں (رہنے والا) غریب، مفلس۔ مُتَعَسِّر: دشوار، مشکل، صبر آزما، تکلیف دہ، پریشان کن، ناموافق، نامساعد۔

عسف: ۱۔ عَسَفَ ـِ عَسْفًا الطریقَ وعن الطریق: راستے سے ہٹ جانا، بے راہ بھٹکنا، ـــ المفازةَ: جنگل کو ایسے راستے سے طے کرنا، جو رواں نہ ہو۔ کہتے ہیں۔ بات یعسف اللیلَ و باللیل: وہ رات کو بے راہ ہو کر چلتا رہا۔ السلطانُ: سلطان کا ظلم کرنا۔ ـ ہ: پر ظلم کرنا۔ ـــ الشئَ: چیز کو زبردستی لے لینا۔ ـــ فی الامر: کام بے سوچے سمجھے کرنا۔ ـــ الدمعُ الجفونَ: آنسو بکثرت بہنا۔ عَسَّفَ: بغیر علامت ونشان کے چلنا۔ أَعْسَفَ: رات کو بے راہ چلنا۔ تَعَسَّفَ عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا۔ ـــ الامرَ: کو بے سوچے سمجھے اختیار کرنا۔ ـ فلانًا: پر ظلم کرنا۔ ـ فی القول: بات کہنے میں بے راہ روی کرنا۔ بات کے ایسے معنی لینا جس پر اس کی دلالت واضح نہ ہو۔ اِعْتَسَفَ الطریقَ: بے جانے ہوئے راہ پر چلنا۔ ـ عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا۔ ـ الامرَ: کو بے سمجھے بوجھے اختیار کرنا۔ ـ فلانًا: پر ظلم کرنا۔ اِنْعَسَفَ الشیئُ: چیز کا مڑنا۔ العَسْف (مص): ظلم۔ العَسَّاف و العَسُوف و المِعْسَف: بہت ظالم۔ العِسِّیف: بے جانے و بے رہبر راہ چلنے والا کہتے ہیں۔ أخذوا فی مَعَاسِیف البِیْدِو معامیها: وہ جنگل کے نامعلوم راستوں پر چلنے لگے۔

۲۔ عَسَفَ ـِ عَسْفًاہ: سے خدمت لینا۔ ـ لِفُلان: کسی کے لئے کام کرنا۔ عَسَفَ البعیرَ: اونٹ کو چلا چلا کر تھکا دینا۔ أَعْسَفَ: غلام سے سخت کام لینا۔ تَعَسَّفَ وَ اِعْتَسَفَ فلانًا: سے کام لینا، سے خدمت کرانا، یا لینا۔ العَسِیف جمع عُسَفَاء و عِسَفَة: مزدور۔

۳۔ العَسْف بموت۔ العَاسِف من الابل: جمع عَوَاسِف: عساف کی بیماری والا اونٹ۔ کہتے ہیں۔ ناقةٌ عَاسِفٌ: عساف کی بیماری میں مبتلا اونٹنی۔ العُسَاف: (طب) اونٹ کی ایک بیماری جو اونٹ کے لئے انسان کے نزع کی مانند ہوتی ہے۔

⊙ عَسَفَ ـِ عَسْفًا فی: کو احتیاط اور سوچ سمجھ بغیر کرنا، کو اندھا دھند کرنا۔ ـــ ہ: سے بے انصافی سے پیش آنا، پر ظلم کرنا۔ عَسَّفَ ہ: پر بہت بوجھ ڈالنا، کو بہت کام دینا، سے بہت زیادہ کام لینا، پر بہت زیادہ ٹیکس لگانا۔ أَعْسَفَ بمعنی عَسَّفَ، تَعَسَّفَ ہ: اٹکل سے کوئی کام کرنا، کو یونہی اتفاق سے کرنا۔ ـــ فی: کو من مانے طریقہ سے انجام دینا۔ ـ عن: سے انحراف کرنا، ہٹنا، تجاوز کرنا، سے بھٹک جانا، سے بھٹکتے پھرنا۔ اِعْتَسَفَ ہ: کوئی کام بے سوچے سمجھے کرنا، اٹکل سے کرنا۔ ـــ عن: سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا، سے بھٹک جانا، سے بھٹکتے پھرنا۔ ـ: بھٹک جانا۔ ـ ہ ب: کو کچھ کرنے پر مجبور کرنا۔ عَسْف: ناانصافی، ظلم، استبداد، عَسُوف: بے انصاف، ظالم، جابر، مستبد حکمران، مطلق العنان حاکم۔ عَسَّاف: بے انصاف، ظالم مستبد حکمران، مطلق العنان حاکم۔ تَعَسُّف: ظلم، من مانی، خود مختاری، زبان کو استعمال کرنے کا من مانا، آزاد اور غلط اسلوب۔ تَعَسُّفِی: خود مختارانہ من مانا، ظالمانہ مستبدانہ۔ إعتساف: بھٹکنا، انحراف، کجروی، دباؤ، جبر، استبداد، زبردستی۔

عسق: ۱۔ عَسِقَ ـَ عَسَقًا و عَسْق بہ: سے چمٹ جانا۔ ـ علیہ: سے طلب میں اصرار کرنا۔ العَسَق (مص): تنگ خوئی، اول شب کی تاریکی۔ العَسِیقة: خراب شراب۔

۲۔ عَسْقَلَ السرابُ: سراب کا چمکنا۔ العَسْقَل: عساقِل کا واحد۔ عسقلُ الرأس: سر کے اوپر کا حصہ۔ العَسَاقِل و العَسَاقِیل: سراب، بادل کے متفرق ٹکڑے۔

۳۔ العُسْقُل (ن): پودے کے تنے یا جڑ کا سخت اور پھولا ہوا حصہ جو بھرپور غذائی مواد پر مشتمل ہوتا ہے۔

⊙ عَسْقلان: جنوب غربی فلسطین میں ایک بندرگاہ کا نام ۔

عسك: ۱۔ عَسِكَ ـَ عَسَكًا بہ: سے چمٹنا۔ تَعَسَّكَ الرجلُ فی مشیتہ: بل کھاتے ہوئے جانا۔

۲۔ عَسْكَرَ القومُ: لوگوں کا جمع ہونا۔ ـ اللیلُ: رات کی تاریکی کا بڑھنا۔ الشیئَ: کو جمع کرنا۔ جمع کی ہوئی شے مُعَسْكَر کہلاتی ہے۔ العَسْكَر جمع عَسَاكِر: جمع لشکر (فارسی لفظ)۔ ہر چیز کا بہت سا حصہ۔ کہتے ہیں انجلت عنہ عساکرُ الھم: غم کی کثرت اس سے دور ہوگئی۔ المُعَسْكَر (مفع) جمع ہونے کی جگہ (ا ع) کیمپ، پڑاؤ، فرودگاہ۔ چھاؤنی۔

⊙ عَسْكَر جمع عَسَاكِر: فوج، لشکر (army) فوجی (Soldiers) رسالہ عَسَاكِر ضابطیة: پولیس police troops یا constabulary۔
عسکری: فوجی (Army)۔ العسکریون: فوجی The militray جمع عَسَاكِر: (فوجی) سپاہی، نجی فوج، پولیس والا Police man، فوج enlistad men ranks۔ عَسْكَرِيَّة: فوجی خدمت Military service فوجی طاقت پر بھروسہ Militarism، فوجیت، سپاہیت، مُعَسْكَر جمع مُعَسْكَرات: فوجی کیمپ، فوجی پڑاؤ، چھاؤنی کیمپ۔ مُعَسْكَرُ الاعتقال: سیاسی قیدیوں کا ایک کیمپ، مرکز اسیران سیاسی۔

عسل: عَسَلَ ـِ ـُ عَسْلًا الطعامَ: کھانے میں شہد ملانا۔ ـ القوم: کو شہد کھلانا، شہد کا توشہ دینا۔ عَسَّلَ القومَ: کو شہد کھلانا، کو شہد کا توشہ دینا۔ ـ الطعام: کھانے میں شہد ملانا۔ ـــ ت النحلُ: مکھیوں کا شہد بنانا۔ ـــ الشیئُ: چیز کا شہد جیسی ہونا۔ اِسْتَعْسَلَ: شہد طلب کرنا۔ ـــ ت النحلُ: مکھیوں کا شہد بنانا۔ العَسَل (مص) جمع أَعْسَال و عُسُل و عُسْل و عُسُول و عُسْلان شہد (مذکر اور کبھی مونث) تھوڑے شہد کو

عَسَلَة کہتے ہیں۔ شیرۂ کھجور۔ کہتے ہیں۔ مـا لـفلان مَضرِبُ عَسَلَةٍ: فلاں بے نسب ہے۔ ماترکَ لَهٗ مَضرِبَ عَسَلَةٍ: اس نے اس کو گالی دی حتی کہ اس کا نسب کالعدم کر دیا اور اس کے منصب کی نفی کر دی۔
العَسَلِيّ: شہد کے رنگ کا۔ العَاسِل (فا) جمع عُسَّل وعَوَاسِل: شہد نکالنے والا۔ نیکوکار، دیانت دار، نیک خداترس۔ خَلِيَّةٌ عَاسِلَةٌ: شہد والا یا شہد کا چھتہ۔ العَسَّال: شہد نکالنے والا۔ العَسَّالة: شہد کی مکھی کا چھتہ، شہد کی مکھی۔ شہد نکالنے والے۔ المَعْسُول جمع عُسَّل: نیکوکار۔ نیک۔ المَعْسَلَة والمَعْسُلَة: شہد کی مکھی کا چھتہ۔ المَعْسُول (مفع) رَجُلٌ مَعْسُولُ الكَلامِ: شیریں زبان۔ خوش آواز۔ مَعْسُولُ المواعيد: سچے وعدوں والا۔

۲۔ عَسَلَ ـُ عَسَلًا و عَسَلانًا الماءُ: پانی کا ہوا کی وجہ سے لہرانا۔ ـــ ـِ عَسْلًا و عُسُولًا و عَسَلانًا الرمحُ: نیزہ کا ہلنا، تھرانا، خوب حرکت کرنا۔ ـــ الذئبُ او الفرسُ: گھوڑے یا بھیڑیے کا دوڑنے میں بیچین ہونا اور سر جھٹکنا۔ عَسَلَ النائمُ: اونگھنا۔ رمحٌ عَاسِلٌ و عَسَّال و عَسُولٌ: نرمی کی وجہ سے حرکت کرنے والا نیزہ۔

۳۔ العَسْل: کہتے ہیں: عَسْلًا لَهٗ: بمعنی تَعْسًا لَهٗ: کے لئے ہلاکت ہو۔ العَسَّال (ح) بھیڑیا۔ العَسِيل جمع عُسُل: عطر فروش کی جھاڑو جس سے وہ عطر جمع کرتا ہے۔

۴۔ عَسْلَجَ الشجرُ: درخت پر نرم ٹہنی نکلنا۔ العُسْلُج جمع عَسَالِج والعُسْلُوج جمع عسَالِيج: نرم ٹہنیاں۔

۵۔ عَسْلَطَ: غیر مربوط کلام کرنا۔ كلامٌ مُعَسْلَطٌ: غیر مربوط بات چیت۔

ن عَسَلَ ـِ: کوئی چیز شہد سے تیار کرنا یا اس میں شہد ملانا۔ کو میٹھا کرنا، خوشگوار کرنا۔ عَسَلُ سُكَّرٍ: راب، شیرہ۔ عَسَلٌ اَسْوَد: راب، شیرہ۔ شهر العَسَل: ہنی مون، ماہ عسل۔ عَسَلِيّ: شہد کے رنگ کا، عنبری، بادام جیسا۔ عَسَّال: شہد جمع کرنیوالا، شہد کی مکھیاں پالنے والا۔ عَسَّالَة: چھتا، محل گاہ۔ عَيسلان: سنبل (hacinth) مَعْسَلَة: چھتا، محل گاہ۔
تَعْسِيلَة: جھپکی، ہلکی سی نیند، اونگھ، مَعْسُول: شہد سے تیار کی ہوئی (چیز) شہد ملی ہوئی (چیز) شہد جیسی میٹھی۔ عُسْلُج جمع عَسَالِج: چھوٹی ٹہنی، نرم ڈالی، کونپل۔ عُسْلُوج جمع عَسَالِيج: نرم ڈالی، چھوٹی ٹہنی، کونپل۔

عسم: ۱۔ عَسَمَ ـِ عَسْمًا و عُسُومًا في الامر: کا لالچ کرنا، کی کوشش کرنا، کی سنجیدگی سے خواہش کرنا۔ اِعْتَسَمَ: کمائی کرنا۔ ـــ فلانًا: کو اس کی طمع کی چیز دینا۔ العَاسِم: اپنے کنبہ کیلئے کمانے والا۔ العُسُوم: خشک روٹی کے ٹکڑے، کمی۔ العُسْمَة: منہ بھر (کہتے ہیں۔ ماذاق الإعسمة: اس نے صرف منہ بھر کے چکھا) العُسْمَة: خشک روٹی کے ٹکڑے۔ العَسُوم جمع عُسُم: اپنے کنبے کے لئے کمانیوالا۔ المَعْسَم: جائے طمع۔ کہتے ہیں۔ مالك في بني فلان مَعْسَمٌ: تمہارے لئے فلاں قبیلے میں کوئی جائے طمع نہیں۔

۲۔ عَسَمَ ـِ عَسْمًا و عُسُومًا و أَعْسَمَ ت عينهُ: آنکھ کا بہہ پڑنا، آنکھ کا بند ہونا بقول بعض پلک کا چپک جانا۔

۳۔ عَسِمَ ـَ عَسَمًا ت القومُ او الكفُّ: پاؤں یا ہتھیلی کا خشک ہو کر ٹیڑھا ہو جانا صفت مذکر أعْسَم۔ صفت مونث عَسْمَاء۔ أعْسَمَ يَدَهُ: ہاتھ کو خشک کر دینا۔

عسن: ۱۔ عَسِنَ ـَ عَسَنًا الكلاءُ في الدابّةِ: گھاس ہضم ہو جانا اور جانور فربہ ہو جانا۔ ـــ ت الدابّةُ: چارہ ہضم ہونا اور جانور کا موٹا ہو جانا۔ أَعْسَنَ المكانُ: جگہ کا کچھ سبزی اگانا۔ العُسْن والعَسَن: چربی۔ العُسُون والأعْسَن جمع عُسْن: موٹا، فربہ۔

۲۔ تَعَسَّنَ الشيءَ: کا پتہ نشان تلاش کرنا۔ ـــ اَبَاهُ: اپنے باپ سے مشابہ ہونا۔ العِسْن: مثل، نظیر اَعْسَانُ الشي: کسی چیز کے نشان اور اس کی جگہ، کہتے ہیں۔ هو عَلَى أَعْسَانٍ من ابيه: وہ اپنے باپ کے مشابہ ہے۔

۳۔ العَسَن: سپیدی اور بالوں کی خوبصورتی کے ساتھ لمبائی۔

عسا: ۱۔ عَسَا ـُ عَسَاءً وعُسُوًّا النباتُ: نباتات کا گاڑھا اور سخت ہونا۔ ـــ ت يدهُ: کام کی وجہ سے ہاتھ سخت ہونا۔ ـــ الليلُ: رات کا بہت تاریک ہونا۔ العَاسِي (فا): سخت مزاج۔

۲۔ عَسَا ـُ عَسْوًا و عُسُوًّا و عُسِيًّا و عَسَاءً و عَسْوَةً الشيخُ: بوڑھا ہونا۔ العِسْوَة: بڑھاپا۔

۳۔ العَسْوُ: موم۔

عسي: عَسِيَ ـَ عَسًى النباتُ: نباتات کا گاڑھا اور سخت ہونا۔ عَسَى: جامد فعل ہے اور مقاربہ کے افعال میں سے ہے۔ محبوب چیز میں امید اور ناپسندیدہ بات میں خوف کیلئے آتا ہے اور سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالٰی کے قول میں یہ دونوں معنی اکٹھے آئے ہیں۔ عسى ان تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئًا وهو شرٌّ لكم۔ اَعْسِ بِهٖ: فعل تعجب بمعنی اَخْلِقْ بِهٖ: یعنی کس قدر لائق ہے۔ العَسِي والعَسِيّ والمَعْسَاة بالامر: کے لائق، مناسب۔ المِعْسَاء: نوخیز لڑکی، قریب بلوغ لڑکی۔

ن عَسَى: (اَن کے ساتھ) ہوسکتا ہے، ممکن ہے کہ، شاید، ماعسى ان يكون: کیا ہوسکتا ہے۔ ماذا عسى ان افعلَ: مجھے کیا کرنا چاہئے۔ ما عسى ينفع هذا: یہ کس کام کا ہوسکتا ہے۔ ماذا عساه يقول: وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ عَسِي: مناسب، موزوں، هو عسي ب (یا أن): یہ اس کے لئے مناسب ہے اس کے لئے مناسب ہے (کہ)۔ هم عسيون ب: یہ ان کے لئے مناسب ہے۔ ان کے لئے مناسب ہے (کہ)۔ عاسٍ: خشک، مرجھایا ہوا، پژمردہ۔

عش: ۱۔ عَشَّ ـُ عَشًّا الشيءَ: کو جمع کرنا۔ ـــ الطائرُ: پرندہ کا گھونسلے میں رہنا۔ عَشَّشَ الطائرُ: پرندہ کا گھونسلا بنانا۔ اِعْتَشَّ: گھونسلا بنانا۔ العَشّ والعُشّ جمع عِشَاش وعِشَشَة وأعْشَاش و عُشُوش: گھونسلا۔ المُعَشَّش (مفع): وہ جگہ جہاں پرندہ گھونسلا بناتا ہے۔

۲۔ عَشَّ ـُ عَشًّا القميصَ: قمیص کی مرمت کرنا۔ اِنْعَشَّ الثوبُ: کپڑے کا پیوند والا ہونا۔

۳۔ عَشَّ ـُ عَشًّا الشيءَ: کو حاصل کرنا۔ المَعَشّ: درخواست، مطلب۔

۴۔ عَشَّ ـُ عَشًّا المعروفَ: تھوڑی سی مہربانی کرنا۔ ـــ ت النخلةُ: کھجور کے درخت کا کم ٹہنوں والا ہونا۔ ـــ عُشُوشَةً وعَشَاشَةً وعَشَشًا البدنُ: بدن کا لاغر ہونا صفت: عَشّ۔ عَشَّشَت النخلةُ: کھجور کے درخت کا کم ٹہنیوں والا ہونا۔ أَعَشَّ البدنَ: جسم کو کمزور کرنا۔ ـــ الرجلُ: کم درختوں والی سخت زمین میں پہنچنا۔ اِعْتَشَّ البدنَ: بدن کو لاغر کرنا۔ العَشّ (مص): تھوڑی بخشش تھوڑی عطا۔ رجلٌ عَشٌّ: کمزور بدن والا امرد۔ العَشَّة: کم شاخوں والا کھجور کا درخت، خراب جگہ میں اگا ہوا درخت، کم درختوں والی زمین۔

۵۔ عَشَّشَ الكلاءُ: گھاس کا خشک ہونا۔

۶۔ أَعَشَّ فلانًا عن الامر: کو سے روکنا باز رکھنا۔ ـــ الظبيَ: ہرن کو بھٹ سے نکالنا۔

ن عَشَّشَ: گھونسلا بنانا، جڑ پکڑنا، مستحکم ہونا، قائم ہونا، آباد ہونا۔ اِعْتَشَّ: گھونسلا بنانا۔ عُشّ جمع عِشَاش واعْشَاش وعِشَشَة: گھونسلا آشیانہ۔ عُشَّة وعِشَّة جمع عُشَش و عِشَش: جھونپڑا، جھونپڑی، چھپر،

گنج، گجلہ۔

عشب: ا۔ عَشِبَ ۔ عَشَبًا و عَشُبَ ۔ عُشَابَةً المکانُ: جگہ کا سبز گھاس والی ہونا۔ صفت عَاشِب۔ عَشَّبَ المکانُ: جگہ کا سبز گھاس اگانا۔ أَعْشَبَ القومُ: سبز گھاس پر پہنچنا۔ کہتے ہیں: أَعْشَبْتَ (فانزل): تم ہرے بھرے مقام پر پہنچ گئے۔ تو اتر پڑو۔ ۔۔ المکانُ: جگہ کا سبز گھاس کا اگانا۔ تَعَشَّبَ و اِعْتَشَبَ: سبز گھاس چرنا، موٹا ہونا۔ اِعْشَوْشَبَ: سبز گھاس پر پہنچنا۔ ۔۔ المکانُ: کسی جگہ کا بہت گھاس والی ہونا۔ ارضٌ عَاشِبَة: بہت سبز گھاس والی زمین۔ العَشَابَة: سبز گھاس کی بہتات۔ العُشْب جمع أَعْشَاب (واحد عُشْبَة) سبز گھاس۔ العَشِب والعَشِيب والمُعْشِب والمِعْشَاب: سبز گھاس والی جگہ، بہت گھاس والی جگہ۔ ارضٌ عَشِبَة و عَشِيبَة و مُعْشِبَة و مِعْشَاب: بہت گھاس والی سرزمین۔ العَشَّاب: سبز گھاس والا، سبزی والا۔ التَعَاشِيب: سبز گھاس کے متفرق قطعات

۲۔ عَشِبَ ۔ عَشَبًا الخبزُ وغیرُہ: روٹی وغیرہ کا خشک ہونا۔

۳۔ عَشُبَ ۔ عَشَابَة و عُشُوبَةً الرجُلُ: پستہ قد اور بدصورت ہونا صفت عَشَبٌ مذکر کے لئے عَشَبَة مونث کیلئے العَشَبَة: بڑھاپے کی وجہ سے ٹیڑھی کمر والا مرد یا عورت۔

⊙ عَشَبَ ۔ وعَشُبَ ۔ وعَشَّبَ: (زمین) کا گھاس دار ہونا، گھاس سے ڈھکی ہونا۔

عُشْب: (اسم جمع) واحد عُشْبَةٌ جمع أَعْشَاب: (سبز) گھاس، نباتات، سبزہ چارہ، پودے، چراگاہ کی گھاس۔ عُشْبَة: پودا، بوٹی، جڑی بوٹی، عُشْبِی: جڑی بوٹی کا (سا)، جڑی بوٹی سے متعلق، نباتاتی پودے کا، پودے سے متعلق، (مرکبات میں) عَشِب: سرسبز گھاس دار، وافر، فراواں، کثیر، بہت گھاس والا۔ عَشَابَة: بافراط روئیدگی، نباتات، پھل پودے، مُعْشِب: گھاس دار سرسبز، وافر گھاس، بہت گھاس والا۔

عشر: ا۔ عَشَرَ ۔ عَشْرًا: دس میں سے ایک لینا، نو پر ایک بڑھانا۔ ۔ القومَ: قوم کا دسواں ہونا۔ ۔ الناقة: اونٹنی کا دس ماہ کی حاملہ ہونا۔ ۔۔ عَشْرًا و عُشُورًا المالَ: مال کا دسواں حصہ لینا۔ ۔ القومَ: قوم کے مال کا دسواں حصہ لینا، قوم کا دسواں ہونا، ان میں سے ایک لینے سے نو ہو جانا۔ عَشَّرَ المالَ: مال کا دسواں حصہ لینا۔ ۔۔ القومَ: قوم کے مال کا دسواں حصہ لینا، قوم کا دسواں ہو جانا، ان میں سے ایک لینے سے نو ہو جانا۔ ۔۔ ت الناقةُ: اونٹنی کا دس ماہ کی حاملہ ہونا۔ ۔ الحمارُ: گدھے کا دس بار رینگنا اسی سے ہے عربوں کے ہاں تعشیر، ان کا خیال تھا کہ جب کوئی شخص کسی گاؤں میں جانے کا ارادہ کرتا جس میں وباء کا خطرہ ہوتا تو گاؤں کے دروازے پر دس بار پکارنے سے وبا اس کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ أَعْشَرَ العَدَدَ: کو دس کر دینا۔ ۔ القوم: دس ہو جانا۔ ۔ ت الناقةُ: اونٹنی کا دس ماہ کی حاملہ ہونا۔ العِشْر جمع اَعْشَار: دس وال حصہ، اونٹوں کا دسویں یا نویں دن گھاٹ پر جانا۔ العُشُر جمع عُشُور و أعشار: دسواں حصہ۔ العَشَرة جمع عشرات: دس (مذکر کے لئے) کہتے ہیں۔ عَشَرَةُ رجال: دس مرد، مونث کے لئے کہتے ہیں۔ عشر نساء: (دس عورتیں) گیارہ اور بارہ کیلئے اگر معدود مذکر ہو تو اَحَدَ عَشَرَ اور مونث ہو تو اِحدَی عَشَرَةَ کہیں گے اور اسی طرح بارہ کیلئے اگر معدود مذکر ہو تو اثنا عَشَرَ اور مونث ہو تو اِثنتاء عشرة: کہیں گے اور معدود واحد منصوب لایا جائیگا جیسے اَحَدَ عَشَرَ رجلاً و احدی عشرة امرأة: گیارہ مرد، گیارہ عورتیں تیرہ سے ۱۹ تک معدود تو واحد منصوب ہی رہیگا لیکن مذکر کیلئے پہلا جز مونث اور دوسرا مذکر لایا جاتا ہے۔ جبکہ معدود مونث کے لئے پہلا جز مذکر اور دوسرا مونث جیسے خَمْسَةَ عَشَرَ رجلاً اور خَمْسَ عَشْرَةَ امرأةً۔ العشرون (ع ح): بیس (مذکر و مونث) عشرون رجلا او امراةً و عشرین رجلاً او امرأةً (بیس مرد، بیس عورتیں) العَاشِر (فا) جمع عُشَّر م عاشِرة جمع عَوَاشِر: دسواں، دسویں دن گھاٹ پر جانے والا اونٹ۔ العاشور والعاشوراء والعاشوری والعَشُورَی: ماہ محرم کی دسویں تاریخ، کہتے ہیں۔ جاؤا عُشَارَ اَوْ مَعْشَرَ: وہ دس دس (کرکے) آئے۔ (یہ دونوں کلمے وصفیت اور عدل کی بنا پر غیر منصرف ہیں)۔ عُشَارَةُ الشئ: چیز کا دسواں حصہ۔ ثوبٌ عُشَارِیٌّ: دس گز لمبا کپڑا۔ غلام عُشَارِی: دس سال کا لڑکا۔ العَشَّار: دسواں حصہ لینے والا۔ عُشر لینے والا۔ الأَعْشَارِی جمع عُشُر: اعشار کی طرف منسوب۔ أَعْشَارِی (Decimal)۔ العُشَرَاء من النوق جمع عِشَار و عُشَرَوَات: آٹھ یا دس ماہ کی حاملہ اونٹنی، وہ اونٹنی جو بچہ جن چکی ہو۔ (جیسے زچگی کی حالت میں عورت جسے نفساء کہتے ہیں)۔ العُشَرِیَّة (ن) ایک درخت جو شمالی امریکا میں اُگتا ہے۔ العَشِیر جمع أَعْشِرَاء: دسواں حصہ۔ المِعْشَار: دسواں حصہ۔

۳۔ عَاشَرَ مُعَاشَرَةً: کے ساتھ مل جل کر رہنا۔ تَعَاشَرَ و اِعْتَشَرَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ العِشْرَة: دوستی، سماجی باہمی روابط۔ العَشِیر جمع عُشَرَاء: قبیلہ، قریبی، دوست، شوہر، بیوی۔ العَشِیرَة جمع عَشَائِر و عَشِیرات: قبیلہ، خاندان۔ عَشِیرَةُ الرجُلِ: برادران، باپ کی جانب سے قریبی لوگ۔ المَعْشَر جمع مَعَاشِر: جماعت، آدمی کے اہل، جن، انس۔

۴۔ العُشَرُ: (واحد عُشَرة) (ن): ایک درخت جس سے گوند نکلتی ہے۔ جنوبی ایشیا، عرب ممالک اور افریقہ میں پیدا ہوتا ہے۔ الأَعْشَارِ و العَوَاشِر: پرندے کے اگلے بڑے پر۔ الأَعْشَر: احمق۔ ناقة مِعْشَار: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔

⊙ عَشَرَ ۔ عُشْرًا ہ: سے کا دسواں حصہ اکٹھا کرنا۔ عَشَّرَ: بمعنی عَشَرَ نیز دس حصوں میں تقسیم کرنا۔ عَاشَرَہ: سے قریبی تعلقات ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کے ساتھ رہنا۔ تَعَاشَرَ: ایک ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات ہونا، ایک دوسرے کے ساتھی ہونا۔ عُشْر جمع أَعْشَار و عُشُور: دسواں، دسواں حصہ، عُشر Tilthe عُشْرُ مِعْشَار: ایک سوواں۔ عُشْرِی أعشاری (Decimal) أَعْشَارِی: اعشاری (Decimal)۔ عِشْرَة: قریبی تعلقات، گہری دوستی، مستقل رفاقت، تعلقات، سماجی باہمی روابط، معیت، رفاقت، صحبت، ساتھ، ازدواجی اتحاد، میاں بیوی کا اتحاد۔ عَشَرَة م عَشَر: دس العَشَر: ماہ محرم کے پہلے دس دن۔ ثَلَاثَةَ عَشَرَ م ثَلاثَ عَشَرَة: تیرہ۔ عَشَرَات: کئی دس، دسیوں، دس سال کی مدتیں، دہ سالہ مدتیں، درجنوں، سکور۔ عَشَّار: عُشر اکٹھا کرنے والا (Collector of the tilthe) عَشِیر: جمع عُشَرَاء: ساتھی، دوست، ہم صحبت، عَشِیرَة جمع عَشَائِر: چھوٹا قبیلہ، برادری، خاندان، رشتہ داری، قریب ترین رشتہ دار، قبیلہ۔ العَشَائِر: بدو، بدوی لوگ، خانہ بدوش عرب۔ حرس العشائر: بدوی پولیس، عشائِری: بدوی۔ العُرْفُ العشَائِرِیُّ: بدوؤں کا رواج، یا قانونِ رواج۔ مَعْشَر جمع مَعَاشِر: مجموعہ، اجتماع، قوم، فرقہ، گروہ، اتحاد، اخوت، بھائی چارہ، ٹولی، معاشرہ، سماج، سوسائٹی، حلقہ، گروہ، رشتہ داری، یا مَعْشَر الشباب: اے نوجوانو! مِعْشَار: دسواں، دسواں حصہ، مُعَاشَرة: قریبی رفاقت، گہری دوستی۔ تعلق، سماجی تعلقات، باہمی روابط، سماج، ٹولہ، مستقل

رفاقت، عام لوگ، عوام، خاص وعام۔ مُعاشِر: ساتھی، دوست، ہم صحبت، رفیق۔

عشز ا۔ عَشَزَ ۔ عَشَزاناً: کٹی ہوئی ٹانگ والے کی طرح چلنا۔ ۔ علی عصاهٔ: لاٹھی پر ٹیک لگانا۔

۲۔ العَشُوزَ جمع عَشَاوِز: دشوار گذار رستہ یا زمین۔ والعَشَوَّز: مضبوط قوی موٹا۔

عشق: عَشِقَ ۔ عِشقًا و عَشَقًا و مَعْشَقَاةً: ہ سے بہت محبت کرنا، سے محبت میں حد سے بڑھ جانا، صفت عاشِقٌ جمع عُشّاق و عاشِقون مونث عاشِقَة و عاشِق جمع عَواشِق ۔ بالشیٔ: سے چمٹنا۔ تَعَشَّقَ: عاشق بننا۔ ۔ ۃ: سے بہت محبت کرنا۔ العِشْق (مص): محبت کی زیادتی (پارسائی اور غیر پارسائی دونوں میں) العَشِيق: عاشق، معشوق۔ العَشّاق و العِشّيق: بہت زیادہ عشق کرنے والا۔

۞ عَشِقَ ۔ عَشَقًا ہ: سے جذباتی طور پر محبت کرنا۔

عَشَّقَ ہ: پر ٹھیک بٹھانا، فٹ کرنا، کے ساتھ باہم جوڑنا، چول سے چول جوڑنا، کو مربوط کرنا، جوڑنا، ملانا۔

تَعَشَّق ھا: (عورت) سے عشق بازی کرنا، سے معاشقہ کرنا، عَشِيق: عاشق، محبوب۔ عَشِيقَة: محبوبہ۔ عِشِّيق: عاشق۔ تعشيق: جوڑنا، ملانا۔ مَعْشُوق: عاشق، محبوب۔ مَعْشُوقَة: محبوبہ، عاشِق جمع عاشقون و عُشّاق: عاشق، شائق، شوقین۔

عشم: ا۔ عَشِمَ ۔ عَشَمًا و عُشُومًا و تَعَشَّمَ الشیٔ: خشک ہونا۔ خبزٌ عَشِمٌ: خشک، سوکھی یا خراب روٹی۔ العَشَمَة: خشک روٹی، لاغری کی وجہ سے خشک، پیر فرتوت (مذکر و مونث) کہتے ہیں۔ شیخٌ عَشَمَةٌ و عجوزٌ عَشَمَةٌ۔ خبزٌ عَيْشَم: سوکھی یا خراب روٹی۔ الأعْشَم م عَشْمَاء: سوکھا درخت، عمر رسیدہ بوڑھا۔

۲۔ العَشَم: لالچ۔ العَشَمَة: لالچ الأعْشَم م عَشْماء: دو آپس میں ملے ہوئے رنگ۔

عشن: عَشَنَ ۔ عَشْنًا و عَشَّنَ و اعْتَشَنَ: انکل سے بات کہنا، قیاس آرائی کرنا۔ إعْتَشَنَ: قیاس آرائی کرنا، رائے لگانا۔ ۔ فلانًا: پر ناحق حملہ کرنا۔ العُشْنان: گری ہوئی خراب کھجوریں۔ العُشَانَة: گری ہوئی خراب کھجوریں، کھجور کی شاخ کی جڑ۔

عشا ا۔ عَشَا ۔ عَشْوًا: رتوندوالے کی طرح کام کرنا، کی نگاہ کا کمزور ہونا۔ دن کو دیکھنا اور رات کو نہ دیکھ سکنا صفت عَشٍ و أعْشَى ۔ الابلَ: اونٹوں کو رات کے وقت چرانا۔ ۔ الرجلَ: کے پاس رات کو جانا۔ ۔ ہ والنبیَّ: کے پاس جانا اور بخشش طلب کرنا۔ ۔ عنه: سے اعراض کرنا اور دوسرے کی طرف مائل ہونا۔ ۔ عَشْوًا و عُشُوًّا النارَ و الی النار: رات کو آگ دیکھ کر راستہ پوچھنے یا مہمانی کی امید میں اس کی طرف چلنا۔ ۔ عَشْوًا و عَشْيًا الرجلَ: کو رات کا کھانا کھلانا۔ عَشِيَ یَعْشَى عَشًا: دن اور رات کو نظر کا کمزور ہونا یا دن کو دیکھنا اور رات کو نظر نہ آنا۔ صفت: عَشٍ و أعْشَى۔ ۔ العشاءَ: رات کا کھانا کھانا صفت عَشْيان۔ ۔ ت الابلُ: رات میں اونٹوں کا چرنا، صفت: عاشِيَة جمع عَواشٍ۔ ۔ عليه: پر ظلم کرنا۔ عَشَّى تَعْشِيَةً الطيرَ: آگ روشن کر کے پرندوں کو اندھا بنا کر شکار کرنا۔ ۔ الابلَ: اونٹوں کو رات کے وقت چرانا۔ ۔ الرجُلَ: کو رات کا کھانا کھلانا۔ أعْشَى إعْشاءً الرجُلَ: کو رات کا کھانا کھلانا، کو دینا، عطا کرنا۔ اللّٰه الرجُلَ: اللہ کا کسی کو رتوندے میں مبتلا کرنا۔ تَعَشَّى: رات کا کھانا کھانا، تَعَاشَى تَعاشِيًا: اپنے آپ کو رتوندے والا ظاہر کرنا۔ ۔ عنه: جاہل بننا۔ إعْتَشَى اعتشاءً: عشاء کے وقت چلنا۔ ۔ النارَ: رات کے وقت آگ دیکھ کر اس کی طرف جانا۔ اسْتَعْشَى إسْتِعْشاءً الرجُلَ: کو ظالم پانا۔ ۔ نارًا: آگ کی روشنی میں راہ پانا۔ العَشاء والعَشاوَة: نگاہ کی کمزوری، دن اور رات کو یا صرف رات کو، رتوندی، شب کوری۔ العَشاء جمع أعْشِيَة: شام کا کھانا۔ العِشاء: رات کی ابتدائی تاریکی، بقول بعض غروب آفتاب سے شام کے دھندلکے تک کا وقت یا دن کا آخری حصہ۔ العِشاءان: غروب آفتاب اور شام کا دھندلکا۔ (رات کی تاریکی)۔ العَشْواء جمع عُشْي: أعشى کا مونث۔ شب کور (جسے رات کو نظر نہ آتا ہو، رات کی اندھی)، تاریکی، اونٹنی، جس کو سامنے کچھ نظر نہ آئے۔ کہتے ہیں۔ هو یخبط خبط عشواء وہ بغیر سوچے سمجھے کام کرتا ہے۔ هو اخبطُ من عَشْواءَ: وہ اس اونٹنی سے بھی زیادہ اندھا ہے جس کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی۔ انهم لفی عشواءَ من امرهم: وہ اپنے معاملہ میں حیران ہیں اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ رَكِبَ العَشْواءَ: وہ ٹاک ٹوئے مارنے لگا۔ العُشْوَة والعِشْوَة: آگ کا شعلہ جو رات کے وقت دور سے دکھائی دے اور دیکھنے والا اس کی طرف چل پڑے۔ انکل بازی سے کام کرنا، کہتے ہیں أوْطَأهُ عُشْوَةً: اس نے اسے ایک امر مشتبہ میں پھنسا دیا۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی ایسی اطلاع دے جسے سن کر انسان حیرت اور مصیبت میں پڑ جائے۔ العَشْوَة: تاریکی، رات کا پہلا چوتھائی حصہ، کہتے ہیں۔ رأيته فی عَشْوَة العتمة و فی عشوة السحر: میں نے اسے رات کی پہلی چوتھائی کی تاریکی میں دیکھا یا فجر کی تاریکی میں دیکھا، انکل سے کام کرنا، کہتے ہیں۔ اَوْطَأهُ عَشْوَةً: اس نے اسے ایک مشتبہ معاملہ میں پھنسا دیا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص ایسی اطلاع دے جو اسے حیرت اور مصیبت میں ڈال دے۔ العِشی: رات کا کھانا۔ العَشِيّ: رات کی ابتدائی تاریکی۔ بعيرٌ عَشِيّ: رات کو دیر تک چرنے والا اونٹ۔ العَشِيَّة: جمع عَشِيّ و عَشايا و عَشِيّات۔ (نسبت میں کہیں گے عَشَوِيّ): شام۔ بادل۔

۲۔ عَشّى تَعْشِيَةً عن الشیٔ: سے نرمی برتنا۔ پر مہربانی کرنا۔

۳۔ العَشْواءُ: کھجور، درخت خرما۔

۞ عَشَا ۔ عُشُوًّا و عَشِيَ ۔ عَشًا: دھندلی نظر والا، شب کور ہونا۔ عَشّى ہُ: کی نظر کو دھندلا کرنا۔ شب کور کرنا، کو شام کا کھانا کھلانا۔ أعْشَى ہ: کی نظر کو دھندلا کرنا۔ ۔ ہ: آنکھوں کو دھندلا کرنا۔ تَعَشّى: شام کا کھانا کھانا۔ عَشًا: ضعف بصر، شب کوری۔ عَشِي: شام۔ عَشاء جمع أعْشِيَة: شام کا کھانا۔ عِشاء: شام۔ شام کی نماز (مونث)۔ عَشْوَة: تاریکی، شام کا کھانا۔ عَشاوَة: ضعف بصر۔ شب کوری۔ عَشِيَّة جمع عَشِيّات و عَشايا: شام جس وقت دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ عشية أمْسِ: گزشتہ شب، گزشتہ شام بين عَشِيّةٍ و ضُحاها: ایک سے دوسرے دن تک، راتوں رات، اچانک، یکا یک، ایکا ایکی، دفعۃً۔ عَشْواء: تاریکی۔ نیز دیکھئے أعْشَى ۔ أعْشَى م عَشْواء: ضعیف البصر، شب کور، اندھا، بے مقصد، اتفاقی، بے ترتیب، بے، بے مقصد، اتفاقی، بے ترتیب، بے نظام، غیر منظم، بیوقوف، احمق، يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْواءَ: وہ اندھا دھند کام کرتا ہے، بے سوچے سمجھے، انکل سے اور بے مقصد، غیر منظم طور پر کام کرتا ہے۔

عص: عَصَّ ۔ عَصًّا و عَصَصًا: سخت ہونا۔ عَصَّصَ علی غريمه: قرضدار سے اصرار کرنا۔ العَصّ (مص): جڑ، کہتے ہیں هو کریم العَصّ: وہ شریف النسل ہے۔ العُصَص والعُصُص: دم کی ہڈی۔

۲۔ العُصْعُص مضبوط جسم کا (آدمی) بے خیر۔ ۔ والعَصْعَص جمع عَصاص و العُصْعُوصُ جمع عَصاعِيص: دم کی ہڈی۔

عصب: ا۔ عَصَبَ ـِ عَصْبًا الشیَٔ: کو باندھنا۔ لپیٹنا۔ موڑنا۔ ــــ القَطنَ: روئی کاتنا۔ الناقةَ: دوہنے کے لئے اونٹنی کی رانیں باندھنا۔ ـ القومُ به لوگوں کا کسی کے پاس جمع ہونا اور اسے حلقہ میں لینا۔ ــــ الریقُ بالفم: تھوک کا منہ پر خشک ہوجانا۔ ــــ الغبارُ رأسَهُ: سر کا گردوغبار سے اٹنا۔ الرجُلُ بیتَه: گھر میں اقامت اختیار کرلینا اور باہر نہ نکلنا۔ ـ عَصْبًا وعِصَابًا الشیَٔ: کو گرفت میں لینا۔ عَصِبَ ـَ عَصَبًا اللحمُ: گوشت کا زیادہ پٹھوں والا ہونا۔ صفت عَصِب ـ ـ القومُ به: لوگوں کا کسی کے گرد جمع ہونا اور اسے حلقہ میں لینا۔ عَصَّبَ هُ: کو پٹی باندھنا، بھوکا رکھنا۔ فلاناً: کو سردار بنانا۔ أَعْصَبَ ت الابلُ: اونٹوں کا تیز چلنا۔ تَعَصَّبَ: پٹی باندھنا۔ سردار ہونا۔ تعصب سے کام لینا ــــ لَهُ و مَعَهُ: کی طرف میلان رکھنا اور اس کی بھرپور مدد کرنا۔ ـ علیه: کا مقابلہ کرنا اور اس کیخلاف عصبیت دکھلانا۔ ــ فی دینه و مذهبه: اپنے دین اور مسلک میں غیور ہونا اور ان کا تحفظ کرنا۔ إعْتَصَبَ التاجُ علی رأسه: تاج کا سر پر ٹھیک بیٹھنا۔ ــــ المَلِكُ: بادشاہ کا تاج پہننا۔ ـ القومُ: قوم میں گروہ بندی ہونا۔ اعتصبوا عن العمل او عن الطعام: وہ کام نہ کرنے یا کھانا نہ کھانے میں ایک گروہ بن گئے۔ اس کا اسم الاعتصاب ہے۔ إنْعَصَبَ الشیُٔ: چیز کا سخت ہونا۔ إعْصَوْصَبَ الشرُّ: برائی کا شدت اختیار کرنا۔ ــــ القومُ: لوگوں کا مجتمع ہونا اور گروہ در گروہ ہونا۔ العَاصِب فا: رجُلٌ عَاصِبٌ: وہ شخص جس کے منہ پر تھوک خشک ہوگیا ہو۔ العَصْب (مص): عمامہ پگڑی، ایک قسم کی چادر، العَصَب (مص) جمع أعصاب (ع ا): نس، پٹھا، عضلہ، منتخب لوگ (ن) عشق پیچاں (ایک پودا)۔ العصبة من الرجال والخیل و الطیر جمع عُصَب: گروہ (آدمیوں، گھوڑوں اور پرندوں کا)۔ العِصْبَة: پٹی باندھنے کی ہیئت العَصَبَة جمع عَصَبَات: عَصَب کا واحد، حمایتی لوگ، العِصَاب (مص): رسی، جو باندھنے کے کام آتی ہے۔ پٹی۔ العِصَابَة جمع عَصَائب: پگڑی، پٹی، مردوں یا گھوڑوں یا پرندوں کا گروہ۔ العَصَبِیّ: متعصب۔ العَصَبِیَّة: دھڑے بندی۔ عَصَبِیَّاتُ الأجنحة (ح): کیڑے مکوڑے کی ایک قسم۔ العَصِیب جمع عُصُب و أَعْصِبَة: پھیپھڑا، جو آنتوں کے ساتھ باندھ کر بھونا جاتا ہے۔ یوم عَصِیبٌ: سخت گرم دن۔ التَعَصُّب (م) جمع تَعَصُّبَات: تعصب، دلیل ظاہر ہونے کے بعد بھی حق بات کو نہ ماننا۔ المُعَصَّب (مفع): تاج دار، سردار، بھوکا، مفلس۔ المَعْصُوب (مفع): سخت بھوکا، کہتے ہیں۔ فلانٌ خِوانُهُ منصوبٌ وجارُهُ مَعْصُوبٌ: فلاں کا دسترخوان بچھا ہوا ہے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ رجُلٌ معصوبُ الخلق: مضبوط بناوٹ والا۔ پرگوشت، مرد۔

۲۔ عَصَبَ ـِ عَصْبًا و عُصُوبًات الاسنانُ: دانتوں کا میلا ہونا۔

۳۔ عَصَبَ ـِ عَصْبًا و عُصُوبًا الافقُ: کنارۂ آسمان کا سرخ ہونا۔

۴۔ عَصَّبَهُ: کو ہلاک کرنا۔

۵۔ تَعَصَّبَ بالشی: سے راضی ہونا۔ إعتصب بالشی: پر قناعت کرنا اور راضی ہونا۔

۶۔ المَعْصُوب: باریک تلوار۔

۷۔ العَصَبْصَب: سخت گرم دن۔ یا سخت دن۔

(ن) عَصَبَ ـِ عَصْبًا ه علی: کو کے گرد لپیٹنا۔ باندھنا۔ ــــ ه: پر پٹی باندھنا، کو لپیٹنا۔ تہ کرنا۔ ــــ ه (سر پر) کچھ لپیٹنا، عصب الریقُ فاه تھوک اس کے منہ میں خشک ہوگیا۔ تھوک نے اس کا منہ بند کردیا۔ عَصَّبَ ه: کے گرد لپیٹنا، باندھنا۔ ـ ه: کی پٹی کرنا۔ ـ ه (سر پر) کچھ لپیٹنا۔ تَعَصَّبَ: اپنے سر کے گرد پگڑی لپیٹنا، یا سر پر پگڑی باندھنا، پگڑی پہننا۔ اپنے آپ کو پٹی باندھنا۔ ــــ مع / ل: کا ساتھ دینا، کی طرفداری کرنا، کی جانبداری کرنا، کی حمایت کرنا۔ ــــ علی: کے خلاف کسی دوسرے کا ساتھ دینا، یا اس کی طرفداری اور جانبداری کرنا، کی مخالفت کرنا۔ ــ ل: سے ضد یا تعصب کی بنا پر وفاداری کرنا۔ ــ متعصب ہونا، کٹر ہونا، جوشیلا حامی ہونا، کوئی جماعت، ٹولی، منڈلی، جتھا، گروہ، ٹیم یا اتحاد بنانا۔ ـ علی: کے خلاف سازش کرنا، إعتصب: جماعت بنانا، ٹولہ، منڈلی یا جتھا بنانا، گروہ بنانا، ٹیم بنانا، اتحاد بنانا، ہڑتال کرنا۔ عَصَب جمع اعصاب: پٹھا، نس، عصبی: اعصابی، زیادہ حساس، اشتعال پذیر، عصبی المزاج: اعصابی، جلد گھبرا جانے والا، اعصابی کمزوری کا مریض۔ الجهاز العصبی: اعصابی نظام، نظام اعصاب۔ حالة عصبیة: جلد گھبرانے کی حالت، الضعف العصبی: اعصابی کمزوری۔ عَصَبِیَة: اشتعال پذیری، حد سے زیادہ حساسیت، جمع عَصَبِیات: پرجوش اور سرگرم کٹرپن، تعصب، پارٹی سپرٹ، ٹیم سپرٹ، قبائلی اتحاد، قبائلیت، نسلی عصبیت، قبائلی عصبیت، قومی شعور، قوم پرستی، وطن پرستی عَصَبَة جمع عَصَبَات و عُصْبَة جمع عُصَب: یونین، لیگ، فیڈریشن، ایسوسی ایشن، گروہ، ٹولہ، منڈلی، جتھا۔ عَصَبَة: باپ کی جانب سے رشتہ دار، رشتہ داری عُصْبَةُ الأُمَم: The league of National تنظیم اقوام۔ عَصِیب: گرم، نازک (وقت، مرحلہ) تشویشناک (وقت، مرحلہ) عِصاب: پٹی۔ عِصَابة جمع عصائب: پٹی، سر پر رکھنے کا کوئی کپڑا۔ سر کی پٹی، سنگارپٹی، جمع عِصابات: یونین، لیگ، فیڈریشن، ایسوسی ایشن، گروہ، جتھا، ٹولہ، منڈلی۔ عِصَاباتُ الخَطْفِ: ڈاکوؤں کا جتھا، حربُ العِصَابات: گوریلا جنگ، گوریلا لڑائی، تَعَصُّب تعصب، متعصبانہ جوش، پارٹی سپرٹ، طرفداری، جانبداری، کٹرپن، قبائلیت، نسلی تعصب، قومی شعور، قبائلی عصبیت، اعتصاب جمع اعتصابات: ہڑتال (Strike) مُتَعَصِّب ل: کے لئے متعصبانہ طور پر سرگرم، پرجوش، جوشیلا پرجوش، سرگرم، کٹر، متعصب۔

عصد: عَصَدَ ـِ عَصْدًا الشیَٔ: کو موڑنا، گرہ دینا، کہتے ہیں۔ عصده علی الامر یعنی اس نے اسے کام پر مجبور کیا۔ ــــ عُصُودًا الرجُلُ: مرجانا۔ اَعْصَدَ الشیَٔ: کو موڑنا، گرہ دینا۔ العصید: موڑا ہوا، گرہ لگایا ہوا۔ العَصِیدَة (ط): آٹے اور گھی کا دلیا بنا کر پکایا ہوا ایک کھانا۔

عصر: ا۔ عَصَرَ ـِ عَصْرًا العنب او الثوبَ وغیرهما: انگور یا کپڑے وغیرہ کو نچوڑنا۔ ـ الدُمَّلَ: پھوڑے کو کھینچ پیپ نکالنا۔ ـ الرکضُ الفرسَ: دوڑ کا گھوڑے کو پسینہ لانا۔ عَصَّرَ الشیَٔ: کسی چیز کو بار بار نچوڑنا۔ أُعْصِرَ القومُ: قوم پر بارش برسائی جانا۔ تَعَصَّرَ: نچوڑا جانا۔ إعْتَصَرَ العنبَ او او الثوبَ و نحوهما: انگور یا کپڑے وغیرہ کو نچوڑنا۔ ـ العصیرَ: رس بنانا۔ من فلانٍ مالاً: سے تاوان کے طور پر یا کسی اور طریقہ سے مال لینا۔ ـ من الشی: چیز لینا۔ إنْعَصَرَ: نچوڑا جانا۔ ـ العنبُ و نحوه: انگور وغیرہ کا رس نکلنا۔ العَاصِر جمع عَصَرة وعاصِرون م عَاصرة و عَوَاصِر و عاصِرات (فا): نچوڑنے والا۔

العَصَرة: عاصر کی جمع۔ العُصَار: رس۔ العُصَارة: رس، نچوڑ، کہتے ہیں۔ رجُلٌ کریمُ العُصَارة: سخی (سوال کئے جانے پر)۔ عُصَارَة النبات: عرق، پودوں سے نکلنے والا دودھ۔ العصیر: نچوڑا ہوا۔ ــ والعَصِیْرة: رس المَعْصَر والمَعْصَرَة جمع مَعَاصِر: نچوڑنے کی جگہ کہتے ہیں۔ هو کریم المَعصر: وہ سوال کے وقت سخی ہے المَعْصَر

والمِعْصَرة: انگوروغیرہ کے نچوڑنے کا آلہ۔ المِعْصَار: وہ چیز جس میں کوئی چیز نچوڑی جائے۔ المُعْصِرات: بادل۔

۲۔ عَصَر ـِ عَصْرًا الشئَ عنه: کو سے روکنا۔ ـ فلانًا: کو قید کرنا۔ اِعْتَصَر علیه: سے بخل کرنا۔ کہتے ہیں اعتصرُ بالماء ما غصَّ به من الطعام: کھانے کو حلق سے نیچے اتارنے کیلئے تھوڑا پانی پینا۔ رجُلٌ عَاصِرٌ جمع عَصَرة و عاصِرُون م عاصِرَة جمع عَوَاصِر و عاصِرات: بے خیر، بخیل۔

۳۔ عَصَرَ ـِ عَصْرًا فلانًا: کو عطیہ دینا۔ اِعْتَصَر العطیّةَ: عطیہ واپس لینا۔ العَصْر جمع أَعْصُر وعُصُور: عطیہ۔

۴۔ عَصَّر الزرعُ: کھیتی کا خوشے نکالنا۔ تَعَصَّر به: کی پناہ لینا۔ اِعْتَصَر بفلان: کی پناہ لینا۔ العُصرُ والعَصَر والعُصْرة والمُعتَصَر: پناہ گاہ، جائے نجات۔

۵۔ عَصَّرت المرأةُ: عورت کا بالغ ہونا، حائضہ ہونا۔ عَاصَرَ مُعَاصَرةً: کا ہم عصر ہونا۔ اَعْصَرت المرأة: عورت کا بالغ ہونا یعنی عہد شباب میں داخل ہونا صفت: مُعْصِر جمع مَعَاصِر ومَعَاصِير۔ العَصَر جمع أَعْصُر وعُصُور: رشتہ دار، قبیلہ، گروہ، کہتے ہیں: تَوَلّٰی عَصَرُهُ: اس کے رشتہ دار حاکم ہو گئے۔ ـــ والعِصْر والعُصْر جمع عُصُور واَعْصُر وعُصُر واعصار اور اعصار کی جمع اَعاصر: زمانہ۔ العُصُر: زمانہ۔ العِصَار: وقت۔ العَصْرِیّ: عصر سے منسوب، زمانہ کا، زمانہ کے طور طریقوں پر چلنے والا۔ العَصْرِیَّة: عَصرِی کا مونث۔ نئے نظریے، جدید خیالات، جدت پسندی۔

۶۔ أَعْصَرَ: وقت عصر میں داخل ہونا۔ العَصْر جمع اَعْصُر وعُصُورا: دن، صبح، رات، آفتاب کے سرخ ہونے تک دن کا آخری حصہ کہتے ہیں: جاءَنی عَصْرًا: وہ دیر سے آیا۔ العَصْرانَ: صبح وشام، رات اوردن۔ العَصْرِیَّة عندالعامة: عصر کے وقت رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے منعقد کیا جانے والا اجتماع، خواہ جوابی ملاقاتوں کیلئے ہو یا جی بہلانے یا وقت گزاری کے لئے ہو۔

۷۔ أَعْصَرَتِ الریحُ: ہوا کا اپنے ساتھ بگولا لانا۔ العَصَرة: گردوغبار، بگولہ۔ العِصار: سخت گردوغبار۔ الإعصار جمع أعَاصِر وأَعاصِير: آندھی۔ بگولہ۔ گردوباد، طوفان بادوباران۔ کہتے ہیں۔ وعدهُ إعصارٌ لیس بعدهُ اعصار: اس کے وعدہ کے لئے وفانہیں۔ اس قول میں پہلا اعصار بمعنی بگولہ اور دوسرا۔ أَعْصِرَ القومُ بمعنی بارش ہونا کا مصدر ہے۔

۸۔ العَصَر والعَصَرة: خوشبو کی بھڑک۔

○ عَصَرَ ـِ عَصْرًا ہ: (کوئی چیز جیسے انگور وغیرہ کو دبانا، نچوڑنا، بھینچنا، نچوڑ کر رس نکالنا، (کپڑے وغیرہ سے) پانی نچوڑنا، کسی چیز کو بھینچنا، دبانا۔ عَاصَرَہ: کا ہم عصر ہونا۔ ـــ ہ: کا ہم عصر، ہم عہد ہونا، کا معاصرانہ ہونا، کا ہم مدت ہونا، کا جوڑ ہونا، کو مستلزم ہونا، تَعَصَّر: نچوڑا جانا، نچوڑ کر رس نکالا جانا۔ اِعْتَصَرَہ: کو نچوڑنا، کو بھینچ کر رس نکالنا۔ اِعْتَصَر جبینَهُ: بھویں سکیڑنا۔ عَصْر: دبانا، بھینچنا، نچوڑنا، جمع اَعْصُر وعُصُور واَعْصَار: عہد، زمانہ، دور، وقت، عرصہ، سہ پہر، تیسرا پہر، (مونث) نماز عصر۔ العصر الحجری: پتھر کا زمانہ، حجری دور (The stone age) العصر الحاضر: عصر حاضر، دور حاضر، ہمارا زمانہ (The present age) فی کل عَصْرٍ و مَصْرٍ: ہمیشہ اور ہر جگہ، کسی وقت اور کسی جگہ۔ عَصْرِی: عصر حاضر کا، موجودہ زمانہ کا، جدید، تازہ ترین، نیا، ہم عصر، ہم زمانہ، حقیقی واقعی، ہم عصر، معاصرانہ، ہم عصری، اس زمانہ کا جمع عصریون: ہم عصر لوگ۔ عَصْرِیَّة: نئے نظریے، جدید خیالات، جدت پسندی، مذہب میں عقلیت پسندی۔ عَصِیر: نچوڑا ہوا، بھینچا ہوا، دبایا ہوا، رس، نچوڑ، افشردہ، بہترین۔ عَصِیرة: رس عُصَار: رس، عرق۔ عُصَارة جمع عُصَارات: رس، عرق۔ عَصَّارة جمع عَصَّارات: دباؤ، شکنجہ، دبانے کی چیز، نچوڑنیوالی چیز، تیل نکالنے کا کولہو۔ گنے کا رس نکالنے کا بیلنا۔ عَصَّارة القصب: گنے کا رس نکالنے کا بیلنا، نچوڑنے والا۔ عَصَارِیَ یوم: ایک سہ پہر (کو)۔ إعْصَار جمع أَعاصِیر: بگولا، گردباد، طوفان، سخت آندھی، زور کی آندھی، طوفانی بگولہ، طوفانی گردباد، طوفانی بادو باران۔ مِعْصَرة جمع مَعَاصِر: نچوڑنے کا آلہ، کولہو، گنے کا رس نکالنے کا بیلنا۔ مُعاصِر: ہم عصر، ہم زمانہ، ہم عہد۔

عصف: ۱۔ عَصَفَ ـِ عَصْفًا وعُصُوفًا ت الریحُ: ہوا کا تندو تیز ہونا۔ صفت عَاصِفَة و عَاصِف۔ ـ ت الناقةُ براكبها: اونٹنی کا سوار کو ہوا کی سی تیزی سے لیجانا۔ ـــ الرجُلُ: دوڑنا، تیز چلنا۔ کہتے ہیں۔ عصفت الحربُ بالقوم: لڑائی نے قوم کو برباد اور ہلاک کر دیا۔ عصف الدهرُ هم بهم: انہیں زمانہ نے ہلاک کر ڈالا۔ أَعْصَفَت الریحُ: ہوا کا تند و تیز ہونا صفت مُعْصِفَة ومُعْصِف جمع مَعَاصِف و مَعَاصِیف، ـــ الرجُلُ: ہلاک ہو جانا۔ ـــ ت الحربُ بهم: جنگ کا لوگوں کو برباد اور ہلاک کرنا۔ عَصْفُ التبن: بھوسہ کے تنکے۔ ـ الأَثمدِ ونحوہ: سرمہ وغیرہ کا غبار۔ العَصْفَة: عَصَفَ کا اسم مرۃ۔ شراب کی بو، کہتے ہیں: لهذه الخمر عَصْفَةٌ طیبة: اس شراب کی بو اچھی ہے۔ یومٌ عَاصِفٌ جمع عوَاصِف: تیز ہوا کا دن العَاصِفَة جمع عَاصِفَات و عوَاصِف: عاصف کا مونث۔ العُصَافة: کوڑا کرکٹ جسے ہوا اڑا کر لائے، خوشے سے گرنے والے تنکے۔ العَصُوف جمع عُصُف والعَصِیف: تند و تیز ہوا۔

۲۔ عَصَفَ ـِ عَصْفًا و عُصُوفًا الشئُ: جھکنا، مائل ہونا۔ أَعْصَفَ الرجُلُ: راستے سے ہٹ جانا۔ العَاصِف ف، سهمٌ عاصِفٌ: نشانہ سے ہٹا ہوا تیر۔

۳۔ عَصَفَ ـِ عَصْفًا و عُصُوفًا و إعْتَصَفَ عیالَهُ: اولاد کے لئے کمانا۔

۴۔ عَصَفَ ـُ عَصْفًا الزرعَ: کھیتی کو پکنے سے پہلے کاٹ لینا۔ أَعْصَفَ الزرعُ: کھیتی کاٹنے کا وقت آجانا۔ إسْتَعْصَفَ الزرعُ: کھیتی کا تناور ہونا۔ العَصْف (مص): کھیتی کے پتے۔ العَصَفَة: کھیت کے ڈنٹھل پر موجود پتے۔ العَصِیفَة: وہ پتے جن کے درمیان خوشہ ہو۔

۵۔ عَصْفَرَ الثوبَ: کپڑے کو زرد رنگنا۔ تَعَصْفَر الثوبُ: کپڑے کا زرد رنگ کا ہونا۔ العُصْفُر: زرد رنگ، (ن): زعفران۔ کیسر، (Seffron)۔

۶۔ تَعَصْفَرَت العنقُ: گردن ٹیڑھی ہونا۔

۷۔ العُصْفُور جمع عَصَافیر مونث عُصْفُورة: چڑیا، ہر وہ پرندہ جو کبوتر سے چھوٹا ہو۔ وہ لکڑی جس سے پالان کے سرے باندھے جاتے ہیں، پیشانی کے بال اگنے کی جگہ (ع ا) گھوڑے کی پیشانی کی اٹھی ہوئی ہڈی جو دائیں بائیں دونوں جانب ہوتی ہے۔ کتاب، کشتی کی میخ، سردار کہتے ہیں۔ نَقَّت او صاحت عصافِیرُ بطنِهِ: بمعنی بھوکا ہونا۔ عصفورة الحبل بلمبارسہ جس سے بوجھ باندھا جاتا ہے (عام زبان کا لفظ)

○ عَصَفَ ـِ عَصْفًا و عُصُوفًا: (ہوا کا) تند و تیز ہونا، ہوا کا زور سے چلنا، ہوا کا بہت زور کا ہونا، سخت تیز ہونا، عَصَفَ به: کو اڑا لیجانا، کو پوری طرح ہلانا، کو زور زور سے ہلانا، (ہوا وغیرہ کا) عَصْف: ہوا کا تند و تیز ہونا، زور سے چلنا، اناج کا ڈنٹھل، ڈنڈی اور پتے۔ عَصْفَة: ہوا کا جھکڑ، جوش، زور، ہوا کا زور کا جھونکا، عاصف: زور زور سے چلنے والا، ریح عاصف یا ریح عاصفة: شدید ہوا، سخت آندھی، جھکڑ۔ عَاصِفَة

جمع عَوَاصِف: تیز وتند ہوا، سخت آندھی، جھکڑ، طوفان، طوفان بادوباران۔ عُصْفُر: زعفران۔ کیسر، اس سے تیار کردہ رنگ۔ مُعَصْفَر: زعفران سے رنگا ہوا۔ عصْفُور جمع عَصَافِير چڑیا، گوریا، کنجشک، کوئی چھوٹا پرند۔ عُصفُور الجنة: ابابیل، عُصْفُور دُوْری: گھریلو پڑیا۔ عُصْفُور مُغَنٍّ: گانے والا پرندہ۔ عصْفُور كنَارِي: کناری، جزائر گنیری کی زرد بلبل۔ ضرَب (اصاب) عُصفُورَيْنِ بحجرٍ (واحدٍ): ایک پتھر سے دو پرندے مارنا۔ عصفور في اليد خيرٌ من الف على الشجرة: ہاتھ کا ایک پرندہ جھاڑی میں دو پرندوں سے بہتر ہے۔ عُصْفُورة: مادہ چڑیا، پن، میخ، کھونٹی، عُصْفُورِيَة: پاگل خانہ۔ (insane asylum)۔

عصل ا۔ عَصَلَ ـُ عَصْلاً العودَ: لکڑی کو ٹیڑھا کرنا۔ عَصِلَ ـَ عَصَلاً الشئُ: سختی کے ساتھ ٹیڑھا ہونا۔ صفت عَصِل و أَعْصَلُ م عَصِلَة و عَصْلاءُ جمع عِصَال و عُصْل ـــ عَصَلَ السهمُ: تیر کا ٹیڑھا ہونا، دیر کرنا۔ العِصْلُ والعَصَلُ جمع اَعْصَال: آنت۔ المِعْصَال والمِعْصِل: جمع مُعَاصِل: ٹیڑھے سر والی لاٹھی۔ جس سے درخت کی ٹہنیوں کو پکڑا جاتا ہے۔ اسے عوام معقيلة یا باکور کہتے ہیں۔ ڈنڈا۔

۲۔ عَصِلَ ـَ عَصَاً و أَعْصَلَ: سخت ہونا۔ المِعْصَل: مقروض پر سختی کرنے والا۔

۳۔ عَصْلَبَ: سخت غضبناک ہونا۔ سخت پٹھے والا ہونا۔ العَصْلَب والعُصْلُب و العُصْلُوب والعُصْلُبِيّ: بڑے ڈیل کا مضبوط آدمی۔

⊂ عَصَلَ ـُ عَصْلاً ہ: کو موڑنا، مروڑنا، ٹیڑھا میڑھا کرنا، عَصِلَ ـَ عَصَلاً: مڑنا، ٹیڑھا میڑھا ہونا (لکڑی کا)۔

عصم ۱۔ عَصَمَ ـِ عَصْمًا الرجُلُ: کمائی کرنا۔

۲۔ عَصَمَ ـِ عَصْمًا الشئَ: کو روکنا۔ القِرْبَةَ: مشک کو رسی سے باندھنا۔ عَصَمَ اللّٰهُ فلانا من المكروه: اللہ تعالیٰ کا کسی کو شر سے محفوظ رکھنا، بچانا۔ عَصَمَ الى فلان: کی پناہ لینا۔ أَعْصَمَ من الشرّ: شر سے باز رہنا، پناہ لینا۔ ـ به: کو پکڑنا، کے ساتھ رہنا۔ ـ بالفرس: گھوڑے کی ایال پکڑنا۔ ـ القِرْبَةَ: مشک کو رسی سے باندھنا۔ اِعْتَصَمَ به: کو ہاتھ سے پکڑنا۔ ـ باللّٰه: اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے گناہ سے باز رہنا۔ ـ من الشرو المَكْرُوه: برائی اور ناپسندیدہ چیز سے باز رہنا، سے پناہ لینا۔ اِنعصَمَ: محفوظ ہونا۔ اِسْتَعْصَمَ: بچانے والی چیز تلاش کرنا، چاہنا۔ ـ به: سے وابستہ ہونا، کے ساتھ ہونا۔ ـــ من الشرّ والمكروه: برائی اور ناپسندیدہ چیز سے پناہ لینا اور باز رہنا۔ العَاصِمَة جمع عَوَاصِم: مدینہ منورہ کا لقب، دار السلطنت۔ العِصَام جمع أَعْصِمَة و عُصُم: عہد (مجازاً آتا ہے)۔ ـــ من القِرْبَة: مشک باندھنے کی رسی۔ ـــ من الوعاء: برتن کا دستہ، ماوراءك يا عصام: مثل بمعنی تیرے پیچھے کیا ہے اے عِصام جہاں سے آرہے ہو وہاں کے کیا حالات ہیں۔ عصام لقمان کا دربان تھا۔ اس نے نابغہ نامی شاعر کو جو لقمان کی عیادت کے لئے آیا تھا لقمان کے پاس جانے سے روک دیا تھا۔ نابغہ نے اپنے قصیدہ کے ایک شعر میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فاني لا الومك في دخولي ولكن ماوراءَكَ يا عصام: میں لقمان کے پاس جانے سے منع کرنے کے بارے میں تجھے ملامت نہیں کرتا مگر اے عصام یہ تو بتا کہ تیرے پیچھے کا کیا حال ہے۔ یعنی لقمان کا کیا حال ہے۔ العِصَامِيّ: عصام کی طرف منسوب جو نعمان کا دربان تھا۔ ذاتی شرافت والا۔ اسی سے مثل ہے۔ كُنْ عِصاميًا لا عِظاميًا: عصام کی طرح ذاتی شرافت پیدا کرو، آباؤ اجداد پر فخر نہ کرو جو کہ مر کر ہڈیاں ہو چکے ہیں۔ العِصْمَة: بچنا، بچاؤ، گناہوں سے بچنے کا ملکہ، اسی سے صاحبةُ العِصْمَة: کا لقب ہے جس سے عصر حاضر کے لوگ عظیم عورتوں کو ملقب کرتے ہیں۔ ـــ جمع عِصَم و اَعْصُم و عِصَمَة و جج أَعصام: گلوبند، پٹہ۔ العَصَمَة: پٹہ۔ اَعْصام کا واحد جو کتوں کے پٹوں کو کہا جاتا ہے۔ المِعْصَم جمع مَعَاصِم (ع ا): کلائی، کہتے ہیں: احاط به إحاطةَ السوار بالمعصم: اس نے اسے اس طرح حلقہ میں لے لیا جیسے کنگن کلائی کو لیتا ہے۔ المُعتَصَم: پناہ لینے کی جگہ۔ پناہ گاہ۔ (ا ع): جنگ میں دفاع یا حملہ کیلئے ایک جگہ جمع ہونے کا مرکز۔

۳۔ عَصِمَ ـَ عَصَمًا الظَبْيُ: ہرن کا سفید ٹانگوں والا ہونا۔ اَعْصَم مونث عَصْماء جمع عُصْم: وہ جانور جس کے اگلے دو پاؤں یا ایک سفید ہو باقی سرخ یا سیاہ۔ العَصَمَة: اَعْصَم کا اسم۔

۴۔ اَلعُصُم والعُصْم: ہر چیز کا باقی حصہ خضاب وغیرہ کا اثر۔ العِصَام جمع أَعْصِمَة و عُصُم و عِصَام: سرمہ، دم کا باریک حصہ۔ العَصُوم والعَيْصُوم: (مذکر و مونث کیلئے) بہت کھانے والا۔ العَصِيم: پسینہ، ہر چیز کا باقی حصہ۔ خضاب وغیرہ کا اثر۔

⊂ عَصَمَ ـــ ِ عَصْمًا ہ/ ہ: کو روک لینا، منع کرنا، کی حفاظت کرنا، کو بچانا۔ ـــ ہ: (دواء کا)، کسی کو بچا دینا، سے مستثنیٰ کرنا، بے خوف کرنا۔ اِعْتَصَم ب: سے وابستہ ہونا، چمٹنا، سے لگا رہنا، کی پناہ لینا، میں پناہ لینا، کو برقرار رکھنا، کی حفاظت کرنا، کو محفوظ رکھنا، کے پاس جایا کرنا، سے رجوع کرنا۔ ـ بالصمت: خاموش رہنا۔ ـ برباطة الجأش: سکون برقرار رکھنا۔ اِسْتَعْصَم بمعنی اِعْتَصَمَ نیز (ترغیب) کا مقابلہ کرنا، کی مدافعت کرنا، کو طاقت سے روکنا۔ عُصْمَة: ہار، چمپا کلی۔ عِصْمَة: روکنا، رکاوٹ، باز رکھنا، احتیاط، دور کرنا، حفاظت، دفاع، پاکدامنی، پاکیزگی، شرافت، حیا، پاکبازی، پارسائی، باعصمت ہونا، معصومیت، بیگناہی، بے غلط ہونا۔ عِصْمَة النكاح: ازدواجی بندھن۔ في عِصْمَةِ فلان: کسی کی حفاظت یا نگرانی میں، سے بیاہی ہوئی۔ جعلت عِصْمَتَها في يدها: اس (خاتون نے) اپنے آپ کو آزاد کر لیا وہ آزاد ہوگئی اور آزاد رہی۔ فَكَّ عِصْمَتَها من زوجها: جج نے شوہر کا اپنی بیوی پر ازدواجی اختیار منسوخ کر دیا۔ عِصَام جمع أَعْصِمَة و عُصُم: چمڑے کی پٹی، فیتہ، تسمہ، عِصَامي: شریف، اونچے خاندان کا، عالی نسب، ممتاز، نمایاں، اپنی خوبیوں کی بنا پر سرکردہ، اپنی کوششوں سے کامیاب ہونے والا جمع عصاميُون۔ عِصَامية: اپنی کوششوں سے حاصل کی ہوئی کامیابی Self-made success۔ اعصم مونث عَصْماء جمع عُصْم: (جانور) جس کا ایک پاؤں سفید ہو، بہت عمدہ، اعلیٰ، قیمتی، أَنْدَرُ مِن الغُراب الاعصم: سفید پاؤں والے کوے سے زیادہ نادر، یعنی نادر شے۔ مِعْصَم جمع مَعَاصِم: کلائی، مَعْصَم جمع مَعَاصم: حفاظتی یا محفوظ جزیرہ وہ جزیرہ جہاں آمدورفت رہتی ہو۔ عاصم: حفاظت کرنے والا، بچانے والا۔ محافظ، عَاصِمة جمع عواصم: دار الحکومت عروس البلاد، کسی ملک کا بڑا شہر۔ معصوم: مقدس جس کی حرمت قائم رکھنی پڑے، قتل پر خاندانوں کی لڑائیوں کے قانون سے محفوظ۔ بے گناہ، جس سے غلطی کا امکان نہ ہو۔ معصوم عن الخطاء: معصوم، معصوم من الزلَل: جس سے غلطی ممکن نہ ہو۔

عصا: ا۔ عصا ـُ عَصْوًا الرجُلَ: کو لاٹھی سے مارنا۔ ـ القومَ: لوگوں کو نیکی یا بدی پر جمع کرنا۔ عَصِيَ ـَ عَصًا: لاٹھی ہاتھ میں لینا۔ ـ بالسيف: لاٹھی کی طرح تلوار سے مارنا۔ عَصَّى تَعْصِيَةً فلاناً العصا: کو لاٹھی دینا۔ عَاصَى مُعَاصَاةً ہ فعصَاهُ: کیساتھ لاٹھی

سے مار پیٹ کرنا اور غالب ہونا۔ أَعْصَى إِعْصَاءً الکرم: انگوری کی بیل میں شاخوں کا نکلنا اور پھل نہ آنا۔ اِعْتَصَى الشئَ: کو لاٹھی بنالینا۔ ـــ علیه: پر ٹیک لگانا۔ ـ بالسیف: لاٹھی کی طرح تلوار مارنا۔ العصا (مص): اجتماع، جماعت، کہتے ہیں۔ شَقَّ العصا: اس نے جماعت کی مخالفت کی۔ جمع عُصِيّ وعِصِيّ و أَعْصٍ و أَعْصَاء (مونث) لاٹھی، سہارے کی چیز، تثنیہ عَصَوَان: (کہتے ہیں۔ اِنْشَقَّت عصا القوم: لوگوں کا آپس میں اختلاف پڑ گیا۔ قَرَعَ له العَصَا: اس نے اسے متنبہ کیا۔ قَشَرَ لَهُ العَصَا: اس نے اس پر اپنے دل کی بات ظاہر کی۔ قرعه بعصا الملامة: اس نے اسے حد سے زیادہ ملامت کی۔ أَلْقَى المسافرُ العصا: مسافر اپنی جگہ پہنچ گیا۔ أَلْقَى عصا الترحال: اس نے اقامت اختیار کی الناسُ عبیدُ العصا: لوگ اس سے ڈرتے ہیں جو انہیں ایذا دے۔ فلانٌ لَيِّنُ العصا: فلاں نرم مزاج ہے۔ اس کے مقابل صُلْبُ العصا ہے۔ جس کا معنی وہ سخت مزاج ہے)۔ پنڈلی کی ہڈی۔ العُصَيَّة: عصا کی تصغیر چھوٹا ڈنڈا۔

۲۔ عَصَا ـُ عَصْوًا الجرحَ: زخم کو باندھنا۔

۳۔ العصا: زبان۔

○ عَصًا (مونث) جمع عُصِيّ وعِصِيّ وأَعْصٍ: ڈنڈا، سونٹا، لاٹھی، عصا، چھڑی (جادو کی بڑے قوال کی)، عصائے اقتدار، بید، چھڑی (چلتے ہوئے ہاتھ میں رکھنے والی) عصائے شاہی: عصائے حکومت۔ (فیلڈ مارشل کی) چھڑی۔ عصا المارشالية: فیلڈ مارشل کی چھڑی۔ شَقَّ العصا: اختلاف کرنا۔ جماعت سے الگ ہو جانا، سے قطع تعلق کر لینا، کی رکنیت چھوڑ دینا۔ شق عصا الطاعة: بغاوت کرنا، فرماں برداری سے دستبردار ہو جانا۔ شقّ عصا القوم: لوگوں میں نااتفاقی کا بیج بونا۔ اِنْشَقَّت عصاهم: وہ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، ایک دوسرے سے الگ ہو جانا۔ عَصَاة: لاٹھی، چھڑی، ڈنڈا، بید عُصَايَة: لاٹھی، ڈنڈا، سونٹا، بید چھڑی۔ عُصَيَّة: چھوٹی چھڑی، چھوٹا ڈنڈا۔ جرثومہ (مجھے جراثیم)۔

عصی: ۱۔ عَصَى ـِ عَصْيًا ومَعْصِيَةً سیِّدَهُ: آقا کی مخالفت کرنا، نافرمانی کرنا صفت عاصٍ جمع عُصَاة وعاصون ـــ العِرْقُ: خون بند نہ ہونا۔ عَاصَى مُعَاصَاةً هُ: کی نافرمانی کرنا۔ تَعَصَّى تَعَصِّيًا علیه: کی نافرمانی کرنا۔ ـــ الأمرُ: دشوار ہونا۔ اِعْتَصَى اعْتِصَاءً ت النواةُ: گٹھلی کا سخت ہو جانا۔ اِسْتَعْصَى سیِّدَهُ: آقا کی نافرمانی کرنا۔ ـــ الشئُ علیه: پر دشوار ہونا، سخت ہونا۔ العِصْيَان: نافرمانی۔ عدول حکمی، بغاوت۔ العَصِيّ جمع عَصِيُّون وأَعْصِيَاء والعُصَاء جمع عَصَاوُون: نافرمان، مرتد، گنہگار، سرکش۔ المَعْصِيَة جمع المعاصِي: گناہ، غلطی، سہو، لغزش، بغاوت۔

۲۔ عَصَى ـِ عَصْيًا ومَعْصِيَةً الطائرُ: اڑنا۔

○ عَصَى ـِ عَصْيًا و مَعْصِيَةً وعِصْيَانًا ه: کی نافرمانی کرنا، کی بات میں، حکم عدولی کرنا، مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، کو چیلنج دینا، کی کسی بات میں اطاعت سے انکار کرنا یا چھوڑ دینا۔ ـــ ہ: کے خلاف بغاوت کرنا، عاصا بمعنی عَصَى۔ تَعَصَّى: (معاملہ، مسئلہ بات) مشکل ہونا یا ہو جانا، پیچیدہ یا الجھا ہوا ہونا یا ہو جانا۔ تعاصَى علی: کے لئے مشکل ہونا، سخت ہونا، ناقابل رسائی ہونا، کی پہنچ سے باہر ہونا، کیلئے ناممکن ہونا۔ ـ عن: کو کرنے سے انکار کرنا۔ اِعْتَصَى بمعنی تعصَّى۔ اِستعصى علی: کی مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کے مقابلہ میں جمے رہنا، کو چیلنج کرنا، کے خلاف بغاوت کرنا۔ اِسْتَعْصَى: نافرمان ہونا، سرکش ہونا، باغی ہونا، استعصى علی: کیلئے مشکل ہونا، دشوار ہونا، ـــ عن: سے بچ نکلنا، کو طرح دے جانا، سے گریز کرنا، کو چیلنج کرنا، کی دسترس سے باہر ہو جانا، کی طاقت سے باہر ہونا۔ ـــ علی: کیلئے کام کرنے سے انکار کرنا۔ استعصى: (بیماری کا) ناقابل علاج ہونا، نقصان دہ ہونا، جان لیوا ہونا (کسی آلہ یا مشین کا) فیل ہو جانا (نہ چلنا) ناکارہ ہونا، ٹوٹ جانا)۔ عَصِيّ جمع عَصِيُّون وأَعْصِيَاء: باغی، خودسر، سرکش، بے لگام، منہ زور، نافرمان۔ عَصِيُّ النطق: بولنے سے عاجز۔ عِصْيَان: نافرمانی، عدول حکمی، سرکشی، بغاوت، حکومت کے خلاف باغیانہ تحریک، بغاوت انگیز تقریر یا اقدام۔ مَعْصِيَة: نافرمانی، حکم عدولی، سرکشی، بغاوت، حکومت کے خلاف باغیانہ تحریک بغاوت انگیز تقریر یا اقدام جمع معاصي: گناہ۔ استعصاء: سرکشی، نافرمانی، ضد، ہٹ، ناقابل گزر ہونا، بے پایاں ہونا، اتھاہ ہونا، مشکل، سخت نقصان دہ ہونا، جان لیوا ہونا، ہلاکت آفرینی، سختی، زہرناکی، مشین کا کام نہ کرنا، ناکارہ ہونا، ٹوٹ جانا، (mechanical break down)، (آتشی اسلحہ کا) جام ہو جانا، نہ چلنا، عاصٍ جمع عُصَاة: نافرمان، منہ زور، سرکش، بغاوت میں حصہ لینے والا، باغی، باغیانہ، ہنگامہ خیز، بغاوت انگیز، تحریک [illegible] گنہگار،

مُتَعَصٍّ: مشکل، پیچیدہ، الجھا ہوا، نازک، ناقابل علاج۔ مُسْتَعْصٍ: مشکل، پیچیدہ، الجھا ہوا، نازک، ناقابل علاج۔

عض: ۱۔ عَضَّ ـَ عَضًّا و عَضِيضًا هُ: کو دانت سے پکڑنا، کاٹنا عَضَّ به اور عضَّ علیه بھی آتا ہے۔ ـ هُ الزمانُ: پر زمانہ کا سخت ہونا۔ عَضَّضَ: بہت کاٹنا۔ عَاضَّ مُعَاضَّةً و عِضَاضًا۔ تعاضّت الدوابُّ: جانوروں کا ایک دوسرے کو کاٹنا۔ أَعَضَّ هُ الشئَ: سے کو کٹوانا۔ تَعَاضَّا: ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹنا۔ العُضّ: جو، گیہوں، اسپست۔ سوکھی گھاس۔ چھوٹا کانٹے دار درخت۔ العِضّ جمع أَعْضَاض وعُضُوض: بدخلق، لڑاکا، خبیث۔ ـــ جمع أَعْضَاض: چھوٹا کانٹے دار درخت۔ العَضَاض: جو چیز دانتوں سے کاٹی اور کھائی جائے۔ (کہتے ہیں لم یذق عَضَاضًا: اس نے کوئی چیز نہیں چکھی۔) موٹا درخت۔ العِضَاض: عاضّ کا مصدر، کہتے ہیں۔ هو عِضَاضُ عیشٍ: وہ سخت زندگی پر صابر ہے۔ العَضَّاض و العَضُوض: بہت کاٹنے والا۔ العَضِيض (مص) سخت کاٹ۔

۲۔ عَضَّ ـَ عَضًّا و عَضِيضًا الشئَ: کے ساتھ لگ رہنا اور اسے پکڑے رکھنا۔ العِضّ جمع أَعْضَاض و عُضُوض: سخت طاقتور، مصیبت، ہمسر، بخیل، مال کا منتظم، کہتے ہیں۔ انه عِضُّ مالٍ: وہ مال کا سخت منتظم ہے۔ العضیض: ساتھی۔

۳۔ أَعَضَّ ت البئرُ: کنویں کا بہت پانی والا ہونا۔ بئرٌ عَضُوض: بہت پانی والا کنواں۔

۴۔ العُضَاض و العُضَاض: ناک کا اوپر والا سخت حصہ۔

○ عَضَّ ـَ عَضًّا و عَضِيضًا ه/ علی/ ب: کو دانت سے پکڑنا۔ کو دانت سے کاٹنا۔ ـ ہ: میں کاٹنا۔ ـــ ب: سے چمٹنا، سے وفاداری کرنا، کو کرتے رہنا، پر قائم رہنا۔ ـہ: (بھوک کا) کو سخت اذیت دینا یا پہنچانا۔ عَضَّهُ الدهرُ یا عَضَّهُ الدهرُ بِنَابِهِ: زمانہ یا قسمت نے اس سے برا سلوک کیا۔ اس پر آزمائشوں اور مصائب کا ڈھیر لگا دیا، اس نے شکست پر شکست کھائی۔ عَضَّضَ ہ/ ہ: کو سختی سے یا اکثر دانتوں سے کاٹنا۔ عِضّ: چھوٹی کانٹے دار جھاڑیاں، خاردار جھاڑیاں۔ عَضَّة: کاٹ (دانت کی) عَضَّاض: دانتوں سے کاٹنے کا عادی۔ کاٹ دار۔ عَضُوض: کاٹنے کا عادی، کاٹ دار۔

عضب: ۱۔ عَضَبَ ـِ عَضْبًا هُ: کو قطع کرنا، کاٹنا۔ ـــ هُ المرضُ: بیماری کا کسی کو ہلنے جلنے سے روکنا۔ ـــ هُ عن الامر: کو کسی بات پر یا کام سے روک دینا۔ ـــ

عنه: سے باز رہنا، کی تلافی کرنا۔ ـــ وأَعْضَبَ الناقةَ ونحوها: اونٹنی وغیرہ کا کان پھاڑ دینا۔ عَضِبَ ـ عَضَبًا الكبشُ ونحوُهُ: مینڈے کا پھٹے کان والا ہونا یا ٹوٹے ہوئے سینگ والا ہونا۔ عَضَبَ ـُ عُضُوبًا و عُضُوبَة: چرب زبان ہونا۔ عَاضَبَ مُعَاضَبَةً هُ: کو منع کرنا، کو سے منقطع کرنا، انْعَضَبَ القرنُ: سینگ کا ٹوٹ جانا۔ العَضْب (مص): تیز تلوار کہتے ہیں۔ سيفٌ عَضْبٌ: تیز یا قاطع تلوار۔ الأَعْضَب و عَضْبَاء جمع عُضْب: پھٹے کان والا، ٹوٹے ہوئے سینگ والا، جس کا بھائی نہ ہو، بے یار ومددگار۔ المَعْضُوب: کمزور، روگی، دائم المرض، معذور، کہتے ہیں: انه لمَعْضُوبُ اللسان: وہ بولنے میں عاجز ہے۔

۲۔ عَضَبَ ـ عَضْبًا بالرمح: کو نیزہ مارنا ـ هُ بالعصا: کو لاٹھی مارنا۔

۳۔ عَضَبَ ـِ عَضْبًا هُ بلسانه: کو گالی دینا۔ العَضْب: تیز زبان والا۔ المِعْضَاب: بہت گالی دینے والا۔ بہت کاٹنے والا۔

۴۔ عَضْبر عَضْبرةَ الكلب: کتے کا شیر کی مانند ہونا۔ العُضْبارة: چکی کا پاٹ، دھوبی کا پتھر۔

ⓒ عَضْب: تیز، طنز آمیز، طنزیہ، ترش زبان، تیز زبان والا۔

عضد: ۱۔ عَضَدَ ـُ عَضْدًا هُ: کے بازو پر مارنا ـ هُ: کی مدد کرنا۔ عَضَدَ ـ عَضَدًا و عَضِدَ عَضَدًا: کے بازو میں درد ہونا۔ صفت عَضِد م عَضِدَة۔ عَاضَدَ معاضدةً: کی مدد کرنا، کہتے ہیں۔ عَاضِدْنِي على فلان: فلاں کے خلاف میری مدد کرو۔ تَعَضَّدَهُ: کو بغل میں لینا۔ تَعَاضَدُوا: ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا۔ اِعْتَضَدَهُ: کو بغل میں لینا۔ ـــ به: سے مدد مانگنا، طاقت ور ہونا۔ العَضْد (مص): جمع أَعْضَاد: مددگار۔ العُضْد و العَضِد جمع أَعْضَاد و أَعْضُد (ع ا): بازو (کہنی سے کندھے تک)۔ العَضُد جمع أَعْضَاد و أَعْضُد (ع ا): بازو کہتے ہیں۔ فتَّ في عَضُدِهِ: اپنے مددگاروں کو کمزور کیا اور انہیں اپنے سے جدا کرلیا۔ فلانٌ عَضُدِي: فلاں شخص میرا مددگار ہے۔ عَضُدُ كلِّ شيء و أَعْضَادُ كل شيء: وہ چیز جس سے عمارت کے آس پاس کو مضبوط کیا جائے جیسے حوض کے کنارے پتھر کھڑے کر دیئے جائیں۔ العَضَد: قوۃ، مضبوط بازو والا۔ اونٹ کے بازو کا ایک مرض۔ عَضَدُ كل شيء: عمارت وغیرہ کے اردگرد مضبوط کرنے والے پتھر جیسے حوض کے کنارے لگے ہوئے پتھر۔ العِضَاد: تعویذ وغیرہ جو بازو پر باندھتے ہیں۔ اونٹوں کے بازو کا نشان۔ بازو بند۔ العِضَادَة: کہتے ہیں: فلانٌ عِضَادَةُ فلان: فلاں شخص فلاں کا مددگار ہے۔ اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا۔ عِضَادَتَا الباب: چوکھٹ کے دونوں بازو۔ العِضَادِي والعَضَادِي والعُضَادِي: بڑے بازو والا۔ الأَعْضَد: دبلے بازو والا۔ جس کا ایک بازو چھوٹا ہو۔ المِعْضَاد: بازو بند۔ المِعْضَدَة: تھیلی، بٹوہ۔

۲۔ عَضَدَ ـِ عَضْدًا الشجرةَ: درخت کو درانتی سے کاٹنا۔ استعضد الشجرةَ: درخت کو درانتی سے کاٹنا۔ العَضَد (مص): کٹا ہوا درخت۔ العِضَاد: درانتی۔ العَضِيد جمع عِضْدَان: درخت سے کٹا ہوا۔ المِعْضَد جمع مَعَاضِد: درانتی۔ المِعْضَاد: درانتی، ہڈی کاٹنے کی بڑی چھری۔

۳۔ عَضَدَ ـِ عَضْدًا الشجرةَ: اونٹوں کے لئے درخت سے پتے جھاڑنا۔ اِسْتَعْضَدَ الثمرةَ: پھل چننا۔ العَضَد: چاپایوں کے لئے درخت سے جھاڑے ہوئے پتے۔

۴۔ عَضَّد و أَعْضَدَ السهمُ: تیر کا دائیں بائیں چلا جانا۔

۵۔ العَضُد جمع أَعْضَاد: گوشہ، پہلو۔ عَضُدُ الطريق: راستہ کا پہلو۔ العَضَاد: پستہ قد، مرد یا عورت۔ العِضَادَةَ من الطريق: راستہ کا پہلو۔ العَضِيد جمع عِضْدَانَ: کھجور کے درختوں کی قطار۔ العَوَاضِد: دریا کے دونوں جانب اگے ہوئے کھجور کے درخت۔

ⓒ عَضَدَ ـُ عَضْدًا ہ/ ھ: کی مدد کرنا، تائید کرنا، پشت پناہی کرنا، ـــ ہ: کے لئے جدوجہد کرنا۔ ـــ ھ: کی وکالت کرنا، تائید کرنا، حمایت کرنا، کے حق میں بولنا۔ عَضَّد و عَاضَد بمعنی عَضَد۔ تَعَاضَدَ: ایک دوسرے کی مدد کرنا، تائید کرنا، تعاون کرنا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کام کرنا۔ عَضُد: مدد، تائید، پشت پناہی، مددگار، معاون، تائید کرنے والا، پشت پناہی کرنے والا۔ عَضُد: (مذکر و مونث) جمع أَعْضَاد: بالائی بازو، قوت، طاقت۔ شَدَّ عَضُدَه: کی مدد کرنا، کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ هو عَضُدُه المَتِين: وہ اس کیلئے ایک ناگزیر مدد کا درجہ رکھتا ہے۔ تعضيد و مُعَاضَدَة: مدد، تائید، پشت پناہی۔ تَعَاضُد: باہمی مدد، تعاون۔ تَعَاضُدِي: باہمی معاون، مساعد۔ مُعَضِّد: مددگار، موید، پشت پناہ۔

عضر: ۱۔ العَضْرَس والعُضَارِس جمع عَضَارِس: سردی، برف، اولے، ٹھنڈا میٹھا پانی۔ (ح): گورخر۔

۲۔ العُضْرُط جمع عَضَارِط و عَضَارِطَة: کھانے پر مزدوری کرنے والا۔ والعِضْرِط: کمینہ۔ قومٌ عَضَارِيط: فقیر لوگ۔

عضل: ۱۔ عَضَلَ ـُ عَضْلاً عليه: پر تنگی کرنا، کو منع کرنا۔ ـــ به الامرُ: پر کام سخت ہونا۔ ـــ ـِ ـُ و عَضِلَ ـَ عَضْلاً و عِضْلاً و عِضْلانًا المرأةَ عن الزواج: عورت کو نکاح سے روکنا، منع کرنا۔ عَضَّلَ عليه: پر تنگی کرنا اس کے حصول مقصد میں حائل ہونا۔ ـ المرأةَ عن الزواج: عورت کو شادی سے روکنا۔ المكانُ: جگہ کا تنگ ہونا، کہتے ہیں: عَضَّلَتِ الارضُ باهلها: کثرت کی وجہ سے زمین کا اہل زمین کیلئے بہت بھیڑ والا ہونا یا بہت ٹھنسا ہوا ہونا۔ ـ ت المرأةُ او الدجاجةُ وغيرُهما من الحيوان بولدها: عورت، مرغی یا دیگر حیوانات پر بچہ جننا مشکل ہونا دشوار ہونا صفت مُعَضِّل۔ أَعْضَلَ الامرُ: کام کا سخت ہونا، مشکل ہونا۔ ـ ت المرأةُ و نحوها من الحيوان بولدها: عورت، اور دوسرے جانوروں کیلئے بچہ جننا دشوار ہونا صفت مُعْضِل و مُعْضِلَة جمع مَعَاضِيل۔ ـ به الامرُ: پر حیلے تنگ ہونا۔ ـــ الامرُ فلانًا: پر غالب آنا، کو عاجز کرنا۔ ـــ الداءُ الاطباءَ: بیماری کا طبیبوں کو عاجز کر دینا۔ تَعَضَّلَ الداءُ الاطباءَ: بیماری کا طبیبوں کو عاجز کر دینا۔ العِضْل: بہت بڑا، چالاک شخص۔ العُضْلَة جمع عُضَل و عُضَل: مصیبت، العُضَال: سخت۔ داءٌ عُضَال: تھکا دینے اور عاجز کر دینے والا مرض، لاعلاج مرض داءٌ مُعْضِل: وہ مرض جس کی کوئی دوائی کارگر نہ ہو۔ لاعلاج مرض المُعْضِلَة جمع مُعْضِلات: مُعْضِل کا مونث۔ مشکل، پیچیدہ مسئلہ، معاملہ جس سے نکلنے کے راستے تنگ ہوں۔ المُعْضِلات: سختیاں۔ المُعَضِّلَة: مشکل پیچیدہ معاملہ۔ جس سے نکلنے کے راستے تنگ ہوں۔

۲۔ عَضَلَ ـُ عَضْلاً الرجلَ: آدمی کے گوشت دار پٹھے پر مارنا۔ عَضِلَ ـَ عَضَلاً: بہت سخت گوشت والا ہونا۔ پنڈلی کا عضلہ موٹا ہونا، صفت عَضِل و عَضُل العَضَلة جمع عَضَل و عَضَلات و العَضِيلَة جمع عَضَائِل (ع ا): پٹھا جس کے ساتھ گوشت ہو۔

۳۔ عَضَلَ ـِ ـُ و عَضِلَ ـَ عَضْلاً و عِضْلاً و عِضْلانًا الرجلَ: کو رنڈوا کرنا۔

۴۔ العِضَل: سخت بدصورت۔ العُضَل جمع عِضْلان (ح): بڑا چوہا۔ العَضَلَة (ن): درخت کنیر کی مانند ایک درخت۔ المُعْضِل: بہت بدصورت۔

ⓒ عَضِلَ ـ عَضَلا: مضبوط اور گٹھا ہوا ہونا۔ عَضَّلَ ـُ

عَضَلا (ھا): عورت کو شادی سے روکنا۔ اَعْضَل ہ/ ب: کیلئے مشکل ہونا یا ہو جانا۔ معما سا ہونا یا ہو جانا، پر اسرار ہونا یا ہو جانا۔ مشتبہ و مشکوک ہونا یا ہو جانا حیران کن ہونا یا ہو جانا، کو الجھن میں ڈالنے والا ہونا یا ہو جانا۔ اعضل الداءُ الاطباءَ یا تَعَضَّلَ الداءُ الاطباءَ: بیماری تمام طبی مہارت کو خاطر میں نہ لائی، بیماری نے اطباء کو سر درد دیا، بیماری نے اطباء کے لئے ایک معماتی مسئلہ کھڑا کر دیا۔ عَضِل: مضبوط، گٹھا ہوا، کسرتی، مضبوط پٹھوں والا۔ عَضَلَة جمع عَضَلات و عَضَل: پٹھا۔ عَضَلِي: پٹھوں کا مضبوط، گٹھا ہوا، عُضَال: سخت، مُزْمِن (مرض)، لاعلاج (بیماری)، مُعْضِل: مشکل، مشتبہ، مشکوک، حیران کن، معما سا، پر اسرار، مُعْضِلة جمع مُعْضِلات و مَعَاضِل: مشکل، مسئلہ، دہری مشکل، حیرانی، الجھن، معما، عقدہ، چیستان۔

عضم: العَضْم جمع عُضُم و أَعْضِمَة: گیہوں کو صاف کرنے کا شاخ دار آلہ، وہ چیز جس سے گیہوں پھٹکی جاتی ہے۔ ـ جمع عِضَام: کمان کا قبضہ۔

عضه: ا۔ عَضَهَ ـَ عَضْهًا و عَضَهًا و عِضْهَةً و عَضِيهَةً: جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، جادو کرنا۔ عَضَهًا الرجُلَ: کو صریح گالی دینا، پر بہتان لگانا۔ عَضِهَ ـَ عَضَهًا و أَعْضَهَ: جھوٹ بولنا، بہتان لگانا۔ العَاضِه (فا): ساحر، جادوگر۔ العَاضِهَة: عَاضِه کا مونث۔ جھوٹ، بہتان۔ العِضَة جمع عِضُون: جھوٹ، جادو۔ العَضِيهَة (مص): جمع عَضَائِه: بہتان، بدگوئی۔

۲۔ عَضِهَ ـَ عَضَهًا البعيرُ: اونٹ کا ببول کا درخت کھانا۔ العضاه: (واحد عِضَاهَة و عِضَة) ہر بڑا کانٹے دار درخت، کہتے ہیں۔ فلان ينتجب غيرَ عِضَاهِهِ: فلاں غیر کے شعر کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ العِضَاهِيّ و العِضَهِيّ و العَضَوِي من الابل: وہ اونٹ جو کانٹے دار درخت کھائے، مکان عَضِه: کانٹے دار درختوں والی جگہ ارضٌ عَضِيهَةٌ: وہ زمین جس میں کانٹے دار درختوں کی بہتات ہو۔

۳۔ حَيَّة عاضِهَة و عاضِة جمع عَوَاضِه: وہ سانپ جس کا ڈسا فوراً مر جائے۔

ⓒ عِضَاه: خاردار جھاڑیاں۔

عضا: ا۔ عَضَا ـُ عَضْوًا الشيءَ: کو متفرق کرنا۔ و ـ الشاةَ: بکری کو جدا جدا کرنا، کی کھال اتارنا، ادھیڑنا۔ عَضَّى تَعْضِيَةً الشيءَ: کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا۔ ـ الشاةَ: بکری کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا۔ ـــ القومَ: لوگوں کو ممبر بنانا۔ العُضْو و العِضو ج اَعْضَاء: جسم کا حصہ، کسی جماعت یا جمعیت کا رکن۔ العِضَة جمع عِضُون: فرقہ، ٹکڑا، جزو، حصہ۔

۲۔ العِضَة: جمع عضون: جھوٹ رجلٌ عاضٍ: خوشحال شخص۔

ⓒ عُضو جمع اعْضاء: ممبر، بازو یا ٹانگ، جسم کا کوئی حصہ (کسی تنظیم کا) رکن۔ عضو اصلی: باقاعدہ ممبر۔ عضو احتیاطی: قائم مقام ممبر، یکے بعد دیگر ممبر۔ عضو التانیث: پھول کا مادہ حصہ عضو التذکیر: پھول کا نر حصہ (Stamen)۔ عضو فَخْرِي: اعزازی ممبر، اعضاء التناسل: اعضاء تناسل Genitals جنسی اعضاء۔ الاعضاء الدقيقة: اعضاء تناسل۔ جنسی اعضاء۔ الدُّوَلُ الاعضاء: رکن ممالک (the member states)۔ علم وظائف الاعضاء: عضویات، علم اعضاء Physiology عُضْوَات: خواتین ممبر۔ عُضْوِي: عضوی، نامیاتی۔ لاعُضْوِي یا غیر عُضْوِي: بے جان، غیر نامی۔ (inorganic)۔ كُتْلَة عُضْوِيَة: جسم نامی، نامیاتی جسم۔ عُضْوِيَة جمع عُضْوِيَات: رکنیت، تنظیم، جماعت، نامیاتی جسم۔

عط: ا۔ عَطَّ ـُ عَطًّا و عَطَّطَ و إعْتَطَّ الثوبَ: کپڑا پھاڑنا۔ عَطِيط: پھٹا ہوا کپڑا۔ تَعَطَّطَ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ إنْعَطَّ العودُ: لکڑی کا مڑنا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔

۲۔ عَطَّ ـُ عَطًّا و عَطَّطَ و اعْتَطَّ الرجُلَ الى الارض: آدمی کو پچھاڑنا، اس پر غالب ہونا۔ العَطَاط: عظیم بہادر۔ (ح): شیر۔

۳۔ الأَعَطّ: لمبا، دراز، طویل۔

۴۔ عَطْعَطَ عَطْعَطَةً القومُ: لڑائی وغیرہ، میں چیخ و پکار کرنا۔ ـ الكلامَ: بات کو خلط ملط کر دینا۔

عطب: ا۔ عَطِبَ ـَ عَطَبًا و عُطُوبًا القطنُ: روئی کا نرم ہونا۔ إعْتَطَبَ النارَ: آگ کو چیتھڑے میں لینا۔ العُطْب و العُطُب: روئی۔ العُطْبَة: روئی کا ایک ٹکڑا، چیتھڑا جس میں آگ لی جائے۔ کہتے ہیں: اجد ريح عُطْبَةٍ: میں جلتی ہوئی روئی یا چیتھڑے کی بو محسوس کرتا ہوں۔

۲۔ عَطِبَ ـَ عَطَبًا و اعْتَطَبَ: ہلاک ہونا۔ ـ الفرسُ ونحوُهُ: گھوڑے وغیرہ کا تھکنا۔ أعْطَبَ ڈ: کو ہلاک کرنا۔ المَعْطَب جمع مَعَاطِب: جائے ہلاکت۔

۳۔ عَطِبَ ـَ عَطَبًا و اعْتَطَبَ عليه: پر سخت غضبناک ہونا۔

۴۔ عَطَّبَ ... الشراب: کو خوشبودار ... کی تدبیر کرنا۔

۵۔ عَطَّبَ الكرمُ: خوشہ انگور کی گرہیں ظاہر ہونا۔

۶۔ المُعْطِب: فقیر۔

۷۔ العُطْبُل و العُطْبُول: دراز گردن ہرنی۔ ـــ و العُطْبُولة و العَيْطَبُول جمع عَطَابِل و العَطَابِيل: جوان خوبصورت دراز گردن عورت۔

ⓒ عَطِبَ ـَ عَطَبًا: فنا ہونا، مرجانا، تلف ہونا، تباہ ہونا، برباد ہونا، عَطَّب ڈ: کو تباہ کرنا، برباد کرنا، کو نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، کمزور کرنا، کو بگاڑنا، خراب کرنا، کا ستیاناس کرنا، کو بے اثر کرنا، مشروب کو تیار کرنا، مخلوط کرنا۔ أعْطَب ہ/ ڈ: کو تباہ و برباد کرنا، کو نقصان پہنچانا، زخمی کرنا، کو خراب کرنا، کا ستیاناس کرنا، کو بگاڑنا، تَعَطَّب: کو نقصان پہنچنا۔ اعْتَطَب بمعنی عَطِب۔ عَطَب: تباہی، ستیاناس، شکستہ یا ڈوبا ہوا جہاز، تباہی، بربادی، نقصان، تَعْطِيب: نقصان پہنچنا، تباہ کرنا، تباہی، بربادی، تَعَطُّب: نقصان اٹھانا، تباہی، نقصان۔

عطر: ا۔ عَطِرَ ـَ عَطَرًا: خوشبودار ہونا صفت عَطِر۔ عَطَّرَهُ: کو خوشبودار کرنا۔ تَعَطَّرَ و اِسْتَعْطَر: خوشبودار ہونا۔ العِطْر جمع عُطُور: خوشبو، ایک قسم کی خوشبودار نبات، ضرب المثل: لا عِطْرَ بعد عروس: عروس کے بعد کوئی عطر نہیں۔ عروس اسماء بنت عبداللہ عذریہ کے پہلے شوہر کا نام تھا، جس کی قبر کو دیکھ کر قبر پر بیٹھ کر رونے لگی دوسرے شوہر نے جس کا نام نوفل تھا، اسے اٹھنے کے لئے کہا تو اس کی عطر کی شیشی گر گئی، تو نوفل نے اسے اٹھانے کو کہا، اس موقعہ پر اس نے یہ فقرہ کہا تھا۔ نوفل بخیل، بدصورت اور گندہ دہن تھا۔ العاطِر جمع عُطُر: عطر پسند کرنے والا، زیادہ عطر لگانے والا۔ العَطَّار: بہت خوشبو والا، عطر فروش۔ العِطَارَة: عطر فروشی کا پیشہ۔ المِعْطَار و المِعْطِير: (مذکر و مونث دونوں کیلئے) بہت خوشبو والا۔

۲۔ تَعَطَّرَتِ البنتُ: لڑکی کا اپنے والدین کے پاس رہنا، شادی نہ کرنا۔

۳۔ عُطَارِد (فلک): ایک سیارہ جو دوسرے سیاروں کے مقابلہ میں سورج سے زیادہ قریب ہے، منصرف و غیر منصرف دونوں طرح آتا ہے۔ فارسی میں اسے دبیر فلک کہتے ہیں۔

ⓒ عَطَّر ہ: کو خوشبو لگانا۔ ـ ب: پر خوشبو لگانا۔ تَعَطَّر: اپنے آپ کو خوشبو لگانا۔ عطر جمع عُطُور و عُطُورات: خوشبو، سنٹ، عطر، ست، جوہر، روح، عطر الورد: گلاب کا عطر، تیل۔ عَطِر خوشبودار۔ سُمْعَة

عَطِرَة: بہت عمدہ، درخشاں، تابندہ شہرت۔ عِطرِی: خوشبودار۔ عِطرِیَۃ جمع عطریات: عطر خوشبو، سنٹ، عَطَّار: عطر ساز، عطر فروش، دوا فروش، دوا ساز۔ عطار عَاطِر: خوشبودار۔ اثنی علیه عاطر الثناء: اس نے اس کی تعریف کے پل باندھ کر اسے آسمان پر چڑھا دیا۔ مُعَطَّر: خوشبو لگا ہوا، سنٹ لگائے ہوئے۔

عطس: ۱۔ عَطَسَ ـِ عَطْسًا و عُطَاسًا: چھینکنا، چھینک مارنا، کہتے ہیں عَطَسَ فلانٌ و عَطَسَتْ به اللُّجُمُ: وہ مرگیا، عَطَّسَ هُ: کو چھینکوانا۔ العَاطُوسَ: ناس، نسوار (عام لوگ عطوس کہتے ہیں)۔ العَطْسَة: چھینک، کہتے ہیں۔ هو عَطْسَةُ فلان: وہ ڈیل ڈول اور اخلاق میں اس جیسا ہے۔ المَعْطَس و المَعْطِس جمع مَعَاطِس: ناک، کہتے ہیں۔ اُرْغِمَتِ المَعَاطِسُ: دشمن مغلوب ہوگئے۔

۲۔ عَطَسَ ـِ عَطْسًا و عُطَاسًا الصبحُ: پو پھٹنا، دن روشن ہونا۔ العَاطِس: صبح۔

۳۔ العَاطِس: سامنے سے آنے والا ہرن۔ العَاطُوس: ایک منحوس چوپایہ۔

عَطَسَ ـُ عَطْسًا و عُطَاسًا: چھینکنا عَطَّسَ هُ: سے چھینک مروانا۔ عَطْسَة: ایک چھینک۔ عُطَاس: چھینکیں، عَاطُوس: نسوار۔ مَعْطِس جمع مَعَاطِس: ناک۔

عطش: عَطِشَ ـَ عَطَشًا: پیاسا ہونا۔ ـ الیه: کا مشتاق ہونا صفت عَطْشَان جمع عِطَاش و عَطْشَى و عَطَاشَى م عَطْشَى و عَطْشَانَة جمع عِطَاش۔ عَطَّشَ هُ: کو پیاسا کرنا۔ عَاطَشْتُهُ فَعَطَشْتُهُ: پر پیاس لگنے میں میں نے غلبہ کیا اور غالب ہوا صفت مفعولی مَعْطُوش۔ أَعْطَشَ هُ: کو پیاسا کرنا۔ ـ الرجُلُ: پیاسے جانوروں والا ہونا۔ تَعَطَّشَ: پیاسا بننا۔ العَطِش و العَطْش م عَطِشَة و عَطْشَة: پیاسا۔ العُطَاش (طب): ایک بیماری جس میں پیاس نہیں بجھتی۔ المَعْطَش جمع مَعَاطِش: پیاس کا وقت۔ المَعْطَشَة جمع مَعَاطِش: زمین جہاں پانی نہ ہو۔ المِعطاش: بہت پیاسا (مذکر و مونث)۔

عَطِشَ ـَ عَطَشًا: پیاسا ہونا۔ ـ الی: کا آرزومند ہونا، متمنی ہونا، کی سخت آرزو رکھنا، کے لئے بیتاب ہونا، عَطَّشَ ہ/ھ: کو پیاسا بنانا کو پیاس لگانا۔ اَعْطَشَ بمعنی عَطَّشَ۔ تَعَطَّشَ الی: کے لئے بیتاب ہونا، کا سخت آرزومند ہونا، کا متمنی ہونا، کا مشتاق ہونا۔ عَطَش: پیاس، عَطِش: پیاسا، خشک جھلسی ہوئی (زمین)۔ عَطْشَان م عَطْشَى جمع عِطَاش: پیاسا، ـ الی: کا لالچی، حریص، خواہشمند، کا سخت آرزومند، کا مشتاق، طالب، عَاطِش: پیاسا ـ الی: کا لالچی، حریص، خواہشمند، کا سخت آرزومند، کا مشتاق، طالب مُتَعَطِّش: پیاسا۔ ـ الی: کا لالچی، حریص، خواہشمند، کا سخت آرزومند، مشتاق، طالب۔ عَطْشَجِیّ جمع عَطْشَجِیَّة: کوئلہ ڈالنے والا، فائرمین۔

عطف: ۱۔ عَطَفَ ـِ عَطْفًا و عُطُوفًا الیه: کی طرف مائل ہونا۔ ـ علیه: پر مہربانی کرنا۔ ـ عنه: سے پھرنا، کے پاس سے چلے جانا۔ ـ هُ عن الامر: کو سے ہٹا دینا۔ ـ کلمة علی اُخری: حرف عطف سے ایک کلمہ کو دوسرے سے جوڑنا۔ ـ العنانَ: لگام پھیرنا۔ ـ الوسادة: تکیہ کو دوہرا کرنا۔ ـ الشیءَ: کو جھکانا، موڑنا۔ عَطِفَ ـَ عَطَفًا: لمبی پلکوں والا ہونا۔ عَطَّفَ الوسادةَ: تکیہ کو دوہرا کرنا۔ ـ الشیءَ: کو موڑنا، جھکانا۔ تَعَطَّفَ: جھکنا، مڑنا، مائل ہونا۔ ـ الثوبَ و بالثوب: کپڑا اوڑھنا تَعَاطَفَ فی مشیته: ناز کے ساتھ سر ہلاتے چلنا۔ اِنْعَطَفَ: مڑنا۔ العَاطِف (فا) جمع عُطُف و عَطَفَة: ازار، گھڑ دوڑ کا چھٹا گھوڑا۔ ـ عند النحاة: حرف عطف جیسے واؤ۔ العَاطِفَة جمع عَاطِفَات و عَوَاطِف: عاطف کا مونث۔ العَطْف (مص): کجی، جھکاؤ، العِطف جمع اَعْطَاف و عِطَاف و عُطُوف: بغل۔ ـ من کل شیء: ہر چیز کا کنارا۔ عِطْفُ القوس: کمان کا کنارہ۔ عِطْفَا الرجل: مرد کے دونوں پہلو۔ کہتے ہیں۔ ثَنَى عَنِّي عِطْفَهُ: اس نے مجھ سے اعراض کیا اور مجھ پر زیادتی کی۔ هو ینظر فی عِطْفَیْهِ: وہ متکبر ہے۔ مَرَّ ثانیَ عِطْفِهِ: وہ تکبر کے ساتھ چلا۔ تنحّ عن عِطْفِ الطریق: وہ سڑک کے درمیانی حصہ سے ہٹ گیا۔ العَطَف (مص) واحد عَطَفَة: پلکوں کی درازی (ن) درخت پر لپٹنے والی بیل (ن) عشق پیچاں العُطْفَة: عَطَف کا اسم نوع، انگور کی بیل کے لٹکتے ہوئے حصے۔ العِطَاف جمع عُطُف و اَعْطِفَة: چادر، ازار، تلوار۔ قوسٌ عَطْفَى: ٹیڑھی کمان۔ العَطُوف و العَاطُوف جمع عَوَاطِیف: پھندا جس میں ٹیڑھے سرے کی لکڑی لگی ہو۔ العَطِیْف جمع عَطَائِف: کمان۔ المِعْطَف جمع مَعَاطِف: گردن، گلا، بڑی چادر جو سردی یا بارش سے بچنے کیلئے کپڑوں کے اوپر پہنی جاتی ہے۔ المِعطف جمع مَعَاطِف: تلوار۔ مُنْعَطَفُ الوادی و مُنْعَطِفُهُ: وادی کا موڑ۔

۲۔ عَطَفَ ـِ عَطْفًا و عُطُوفَاتٍ الناقةُ علی ولدها: اونٹنی کا اپنے بچہ پر مہربان ہونا، اس کا دودھ بہنا۔ ـ اللّٰهُ قلبَهُ و بقلبه: اللہ کا کسی کے دل کو مہربان کر دینا۔ عَطَّفَ الناقةَ علی ولدها: اونٹنی کو اپنے بچہ پر مہربان کرانا۔ تَعَطَّفَ علیه: کے لئے مہربان ہونا اور اس پر احسان کرنا۔ تَعَاطَفَ القومُ: بعض کا بعض پر مہربانی کرنا۔ اِسْتَعْطَفَ هُ: سے مہربانی طلب کرنا، سے مہربانی کا خواہاں ہونا۔ العَاطِفَة جمع عَاطِفَات و عَوَاطِف: شفقت۔ العَطُوف جمع عُطُف: شفیق، احسان کرنے والا، محسن۔ امرأة عَطُوف: خاوند یا بچوں سے محبت کرنے والی۔ العَطِیف من النساء: نرم و نازک فرمانبردار عورت۔

عَطَفَ ـِ عَطْفًا ہ: کو موڑنا، جھکانا۔ ـ الی: کی طرف جھکنا، مائل ہونا، سے رغبت ہونا۔ ـ علی: کا مددگار ہونا، ہمدرد ہونا، سے وابستہ اور منسلک ہونا، کیلئے دل میں محبت، چاہ، شفقت، لگن، پیار رکھنا، کا شائق ہونا، کے ساتھ ہمدردی رکھنا، سے اظہار ہمدردی کرنا، پر ترس و رحم کھانا یا محسوس کرنا، پر افسوس وغیرہ محسوس کرنا۔ عَطَفَ به علی: کو کی طرف مائل کرنا۔ ـ علی: کیلئے محبت یا ہمدردی بیدار کرنا۔ میں دلچسپی جگانا۔ عطف به علی: کو کی قدر دانی کرانا، دل کے قریب کرنا۔ عطف به عن: کو سے باز رہنے کیلئے کہنا، کو سے برگشتہ کرنا، منحرف کرنا، بیگانہ کرنا۔ عَطَّفَ ہ: کو تہ کرنا، دہرا کرنا۔ ـ ہ: کو مددگار بنانا، کا دل نرم کرنا، کے جذبات ابھارنا۔ ـ ہ علی: میں کیلئے محبت، ہمدردی، رحم دلی یا شفقت بیدار کرنا۔ ـ ہ/ھ علی/ نحو: گویا کے دل کو کیلئے محبت، شفقت وغیرہ سے بھر دینا۔ تَعَطَّفَ علی: کا مددگار رہنا، سے وابستہ ہونا، کا شائق ہونا، کے ساتھ ہمدردی رکھنا، کیلئے شفقت محبت وغیرہ رکھنا یا محسوس کرنا، پر افسوس وغیرہ محسوس کرنا۔ تَعَطَّفَ ب: کو نوازش یا عزت افزائی کیلئے کرنا۔ تَعَطَّفَ بالعطاف: کوٹ پہننا، اپنے آپ کو کوٹ یا لبادہ یا چوغہ یا چادر میں لپٹنا۔ اِنْعَطَفَ: جھکنا، مڑنا، ٹیڑھا ہونا، خمیدہ ہونا۔ ـ الی: کی طرف مڑنا، گھومنا ـ علی/ الی: پر آمادہ یا رضامند یا تیار ہونا، سے وابستہ ہونا، کا شائق ہونا، کی ساتھ ہمدردی رکھنا، سے محبت رکھنا، یا محسوس کرنا۔ اِنْعَطَفَ: پھرنا، مڑنا، تَعَاطَفَ: باہم محبت دل میں رکھنا، ایک دوسرے سے وابستہ ہونا اِعْتَطَفَ بالعطاف بمعنی تعطف بالعطاف۔ اِسْتَعْطَفَ هُ: کی ہمدردی طلب کرنا، کی محبت و شفقت کا خواہاں ہونا۔ سے التماس کرنا، التجا کرنا، کی منت سماجت کرنا، سے ملتجی ہونا۔ اِسْتَعْطَفَ محبت یا شفقت کی نمائش کرنا، ظاہر کرنا، کا مظاہرہ کرنا، سلخ جو

یانہ اخلاق ظاہر کرنا۔ ـــ ہٗ او خاطرہٗ: کو جیتنے کی کوشش کرنا، کی ہمدردی حاصل کرنے کا دل ہاتھ میں لینے، کی تائید حاصل کرنے، کو اپنا طرف دار بنانے یا اپنے ساتھ ملا لینے کی کوشش کرنا، کو منانے یا راضی کرنے کا خواہاں ہونا، کو دوست بنانے کی کوشش کرنا۔ ـــ ہ: کو کشش کرنے، کھینچنے یا حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔

عَطف: جھکانا، موڑنا، جھکنا، مڑنا، خمیدگی، کونہ، گوشہ۔ ـــ علی: کے ساتھ ہمدردی، محبت، وابستگی، کا شوق، سے رغبت، اداۃ (حرف) العطف: حرف عطف۔ Conjunction۔ عطف البیان: عطف بیان۔ (دیکھو عربی گرامر)۔ عِطف جمع اعطاف: جسم کا پہلو۔ لَیِّنُ الاعطاف: اثر پذیر، تاثر پذیر، مطیع، اطاعت شعار۔ تَرَنَّحت الاعطاف: وہ بے خود ہو گئے وہ وجد میں آ گئے۔ ضَمّ بین اعطافہ: پر مشتمل ہونا، پر محیط ہونا۔ عَطفۃ: موڑ، مڑنا، اعوجاج، موڑنا، پھیرنا، پیچ، بل جمع عَطَفات و عُطَف: بند گلی۔ عِطاف جمع عُطُف و اَعطِفۃ: کوٹ، لبادہ، چوغہ، چادر۔ عَطُوف: رحم دل، ترس کھانے والا، ہمدرد، پیارا، محب، محبت کرنے والا، مہربان، محبت آمیز۔ عُطُوفۃ: محبت، شفقت، وابستگی، فیض رسانی۔ نیک ارادہ نام سے پہلے تعظیمی لفظ۔ صاحب العُطُوفۃ: والاحضرت، رحمت مآب۔ مِعطَف جمع مَعَاطِف: کوٹ، اوورکوٹ، لبادہ، چوغہ، گون، فراک۔ مِعطَفٌ مُشَمَّعٌ: برساتی (Rain coat)۔ مِعطَفُ فَرو: فرکوٹ (Fur coat)۔ عَاطِفۃ جمع عَوَاطِف: عاشقانہ محبت، شفقت، چاہ، لگن یا پیار، دلی فیض رسانی، پریشانی، تشویش، ہمدردی، ترس، رحم، وابستگی، شوق، رغبت، مہربانی، نوازش، کرم، احساس، جذبہ، جذباتیت۔ عَاطِفی: جذباتی، جذبات انگیز، حساس، ہمدرد، محبت آمیز۔ عَاطِفۃ: جذباتیت۔ مُنعَطَف جمع مُنعَطَفات: (سڑک کا) موڑ، موڑنا، پیچ در پیچ ہونا، گلی، تنگ گلی۔

عطل: ۱۔ عَطِلَ ـ عَطَلاً و عُطُولاً ت المرأۃُ: عورت کا بے زیور ہونا۔ صفت عَاطِلٌ و عَاطِلَۃٌ و عُطُلٌ جمع عَاطِلات و عَوَاطِل و عُطَّل و اَعطال ـــ عطالۃ الاجیرُ: مزدور کا بے کار ہونا۔ عَطِلَ ـ عَطَلاً و عُطُولاً ت المرأۃُ: عورت کا بے زیور ہونا۔ ـــ عَطَلاً الرجلُ من المال او الادب و کذا القوسُ من الوَتَر والفرسُ من الرَّسَن: آدمی کا مال و ادب سے، کمان کا تانت سے اور گھوڑے کا گلے میں ڈالنے والی رسی سے خالی ہونا صفت عَاطِل و عُطُل و عُطُل جمع اَعطَال۔ عَطَّلَ الشیَٔ: کو بے کار چھوڑ دینا۔ ـــ المرأۃَ: عورت کے زیور اتار لینا۔ ـــ القوسَ: کمان سے تانت نکال لینا۔ ـــ ت الابلَ: اونٹوں کا بغیر چرواہے کے ہونا۔ ـــ الابلَ: اونٹوں کو چرواہے کے بغیر چھوڑنا۔ البئرَ: کنویں پر جانا چھوڑ دینا، ہر وہ چیز جس کو رائج کر کے چھوڑ دیا گیا ہو وہ مُعَطَّل ہے، کہتے ہیں عُطِّلَتِ الحدودُ او الثغورُ: سرحدیں بلا محافظ چھوڑ دی گئیں۔ عُطِّلَتِ المزارعُ: کھیتیاں جوتی اور بوئی نہیں گئیں۔ عُطِّلَتِ الرعیۃُ: رعایا بغیر والی کے رہیں۔ ایسے لوگوں کو مُعَطَّلون کہتے ہیں۔ تَعَطَّلَ: بغیر کام رہنا، بیکار رہنا۔ ـ و استَعطَلَت المرأۃ: عورت کا بے زیور ہونا۔ رجلٌ عَاطِلٌ م عَاطِلَۃ: مال و ادب سے خالی شخص، عام لوگ کہتے ہیں۔ رجلٌ عَاطِلٌ: اخلاق سے عاری شخص۔ امرأۃ عَاطِلَۃ: بری عورت۔ طوائف، بیسوا، آبرو باختہ۔ العُطلَۃ: بیکاری، بے روزگاری۔ العُطّلاء من النساء: بے زیور عورت۔ العَطَالَۃ او القصورُ: جسمانی معذوری۔ التعطیل: عَطَّلَ کا مصدر۔ بے کار رہنا۔ مذہب التعطیل: صفات الٰہیہ کو نہ ماننے والوں کا مذہب۔ المِعطَال من النساء: بے زیور رہنے والی عورت۔ المُعَطِّلۃ: مذہب تعطیل کو ماننے والے۔

۲۔ العَطَل جمع اَعطال: گلا، شخص، جسم۔ کہتے ہیں۔ ما اَحسَنَ عَطَلَہٗ: اس کا قد کیسا اچھا ہے۔ العِطِیل: مذکر کھجور کے خوشے کا تنا۔ العَیطَل: بمعنی عطیل، خوبصورت لمبی گردن والی۔

○ عَطِلَ ـ عَطَلاً من: سے محروم اور خالی ہونا، کو نہ رکھنا، کی کمی ہونا، کی قلت ہونا۔ ـ بے کار ہونا، کام نہ کرنا، آرام کرنا، کام کے بغیر ہونا، بے روزگار ہونا۔ عَطَّلَ ہ/ ہ: کو نگرانی یا نگہداشت کے بغیر چھوڑ دینا، کو نظر انداز کرنا، کو بغیر کام کے چھوڑ دینا، بیکار چھوڑ دینا۔ ہ: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کا سلسلہ منقطع کرنا، کو معلق کرنا، معطل کرنا، کو ملتوی کرنا، موقوف کرنا، ٹالنا، کو بند کرنا، چھوڑنا، ترک کرنا، پر وقتی طور پر پابندی لگانا، کو بند کرنا (جیسے کسی اخبار کی اشاعت کو)، کو سخت نقصان پہنچانا، تباہ کرنا، برباد کرنا، مفلوج کرنا، کو بے اثر بنانا، کا اثر توڑنا، مشین موٹر وغیرہ نہ چلانا، کو اُٹھا رکھنا، کو غیر نافذ العمل بنانا (موٹر وغیرہ) بند کرنا (دفتر وغیرہ) بند کرنا، بند رکھنا۔ تَعَطَّلَ: کام یا روزگار کے بغیر رہنا، بے روزگار ہونا یا ہو جانا۔ تعطل عن العمل: بے روزگار ہونا یا ہو جانا، ـــ ناکارہ ہونا، ہو جانا، بے حرکت ہونا یا ہو جانا، بے عمل ہونا یا ہو جانا، رک جانا، دیر ہو جانا، معطل ہو جانا، موقوف ہو جانا، ملتوی ہو جانا، منقطع ہونا یا ہو جانا (موٹر، مشین) کا رک جانا، کام نہ کرنا، کو سخت نقصان پہنچنا، نہ چلنا، بند ہو جانا، نافذ العمل نہ رہنا، قانونی نہ رہنا، غیر موثر ہونا۔ عُطِّلَ من: سے عاری، محروم، خالی۔ عُطل: نقصان، گھاٹا، خسارہ۔ عَطَل: بے روزگاری۔ عُطلَۃ: بے روزگاری (عطلۃ عن الشغل کا بھی یہی معنی ہے)۔ فرصت، تعطیل (چھٹی) تعطیلات چھٹیاں، آدھی چھٹی، وقفہ (Reces) جمع عُطُلات و عُطَل: چھٹی، تعطیل، فراغت کا دن، عُطلۃ رسمیۃ: سرکاری چھٹی، ایام العطلۃ الرسمیۃ: سرکاری چھٹیاں۔ عُطلۃُ الاسبوع: ہفتہ وار چھٹی ہفتہ اتوار Weakend۔ عُطلۃٌ قضائیۃ: عدالت کا وقفہ۔ عُطلۃ نہایۃ الاُسبوع: ہفتہ وار چھٹی۔ تعطیل: روکنا، رکاوٹ، انقطاع، التواء (کسی سرگرمی) کا تعطل، عارضی پابندی، (اخبار کی اشاعت کی) بندش، نقصان رسانی، تباہی بربادی، مفلوج کرنا، بے اثر کرنا (موٹر وغیرہ) بند کرنا، (دفتر وغیرہ) بند کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ ماننے والوں کا مذہب۔ تعطیل حرکۃ المرور: آمد و رفت کی بھیڑ بھاڑ۔ عَاطِلٌ من: سے خالی، محروم، عاری۔ ـــ بے کار، بے حرکت، بے عمل، ست کاہل، بے روزگار، بے کار، بے روزگار شخص، عضو عاطل: عضو بلا عمل۔ عواطل: چھٹیاں، تعطیلات۔ تَعَطُّل: بے روزگاری، بے کاری، بے عملی، سستی، کاہلی، مشین کا کام نہ کرنا، ناکارہ ہو جانا، ٹوٹ جانا، رکنا، ٹھہراؤ۔ تعطل عن العمل: بے روزگاری۔ مُعَطَّل: وہ شخص جو صفات الٰہیہ کا منکر ہو۔ مُعَطَّل: بے کار، ست، بے روزگار، مشین وغیرہ جو ناکارہ ہو گئی ہو، کام نہ کرتی ہو، موٹر وغیرہ جو چلنے کے قابل نہ ہو۔ بند کی ہوئی (موٹر)، بند کیا ہوا (دفتر)۔

عطم: اِعتَطَمَ الرجلُ: ہلاک ہونا، صفت عاطِم و عَطِیم جمع عُطُم۔ العُطُم: دھنی ہوئی روئی۔

عطن: ۱۔ عَطَنَ ـ عَطنًا و عُطُونًا البعیرُ: اونٹ کو دوبارہ پانی پلانے کیلئے آرام دیا جانا۔ ـ البعیرُ: اونٹ کا سیراب ہو کر بیٹھنا۔ صفت عَاطِن ج عُطَّان و عُطُون و عَطَنۃ م عَاطِنۃ جمع عاطنات و عَوَاطِن و عُطُون۔ عَطَّنَ الابلَ: اونٹوں کو دوبارہ پانی پلانے کے لئے آرام دینا۔ ـ ت الابلُ: اونٹوں کا سیراب ہو کر بیٹھ جانا۔ ـ لِلابلِ: اونٹوں کے بیٹھنے کے لئے، جگہ بنانا۔ اَعطَنَ الابلَ: پانی پلانے کے

بعد دوبارہ پانی پلانے کے لئے اونٹوں کو آرام دینا۔ العَطَن (مص)، و المَعْطِن والمَعْطَن جمع مَعَاطِن: اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، حوض کے آس پاس بکریوں کے بیٹھنے کی جگہ۔

۲۔ عَطَنَ ـُ عَطْنًا الجلدَ: کھال کو گوبر یا نمک میں ڈالنا۔ صفت مفعولی عَطِین و مَعْطُون۔ عَطِنَ ـَ عَطَنًا الجلدُ: کھال کا نمک یا گوبر میں ڈال کر چھوڑ دینا اور اس کا بدبودار ہونا۔ صفت عَطِن۔ عَطَّنَ الجلدَ: کھال کو گوبر یا نمک میں ڈالنا۔ اِنْعَطَنَ الجلدُ: کھال کو بدبودار ہونے تک نمک یا گوبر میں رکھا جانا۔ العِطَان: گوبر یا نمک جس میں کھال کو رکھا جائے تا کہ بال الگ ہو جائیں۔ رَجُلٌ عَطِین و عَطِینَةٌ: بدبودار شخص۔

○ عَطَنَ ـُ عَطْنًا الجلدَ: رنگنے کے عمل میں کھال کو بال اتارنے کیلئے بھگونا۔ ـــ الکتّانَ: کتان (سن) کو بھگو کر نرم کرنا۔ عَطِنَ ـَ عَطَنًا: کھال کا رنگنے کے عمل میں گلنا سڑنا۔ عَطَّنَ: بمعنی عَطَنَ۔ عَطَن: پانی کے گھاٹ کے قریب اونٹوں کے آرام کی جگہ۔ ضَیِّقُ العَطَن: تنگ ذہن، تنگ، محدود رَحْبُ العَطَن: وسیع الذہن۔ عَطِن: گلا سڑا، بدبودار۔ عَطِین: گلا سڑا، بدبودار۔

عطا: ۱۔ عَطَا ـُ عَطْوًا الشیَٔ و إلیہ: کو لینا۔ ـــ إلیہ یدہُ: اپنا ہاتھ کی طرف بلند کرنا۔ عَاطَی عِطَاءً و مُعَاطَاةً الرجُلَ الشیَٔ: کو چیز دینا۔ أَعْطَی إعطاءً ہُ الشیَٔ: کو کوئی چیز دینا۔ ـــ البعیرُ او أعطی البعیرُ بیدہ: اونٹ کا مطیع ہونا۔ تَعَطَّی تَعَطِّیًا الامرَ: میں مشغول ہونا۔ عطیہ مانگنا۔ تَعَاطَی تَعَاطِیًا الشیَٔ: کو لینا۔ ـــ الامرَ: کام سرانجام دینا، یا اس میں مشغول ہونا۔ الرجُلُ: کسی چیز کو پکڑنے کے لئے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑا ہونا۔ کہتے ہیں۔ تَعَاطَیْنَا فَعَطَوْتُہُ: ہم نے سخاوت میں مقابلہ کیا تو میں غالب آ گیا۔ اِسْتَعْطَی اِسْتِعْطَاءً: عطیہ مانگنا۔ العَطَا و العَطَاء جمع أَعْطِیَة و جج أَعْطِیَات و العَطِیَّة جمع عَطَایا و عَطِیَّات: عطا، عطیہ، ہر وہ چیز جو دی جائے۔ العَطَاءَة و العَطَاوَة: عطا، عطیہ۔ کہتے ہیں۔ ما أَعْطَاہُ للمال: وہ کتنا سخی ہے، وہ کتنا زیادہ مال دینے والا ہے۔ (خلاف قاعدہ) المِعْطَاء جمع مَعَاطٍ و مَعَاطِیّ: بہت دینے والا (مذکر اور مونث)۔

۲۔ عَطَّی تَعْطِیَةً الرجُلَ: سے نصف لینا، کی خدمت کرنا۔ عَاطَی عِطَاءً ا و مُعَاطَاةً ہُ: کی خدمت کرنا، سے نصف لینا۔

۳۔ عَطَّی تَعْطِیَةً الرجُلَ: کو جلدی کرنے کیلئے کہنا۔ تَعَطَّی تَعَطِّیًا: جلدی کرنا۔

○ عَاطَی ہ ہ: کو کچھ دینا۔ أَعْطَی ہ/ل ہ: کو کچھ دینا۔ ـ ہ ہ: کو کچھ پیش کرنا، کے کچھ حوالے کرنا، کو کی پیشکش کرنا، کو کچھ عطا کرنا، کو کچھ دینا، کو سے سرفراز کرنا۔ أُعْطِیَ ہ: کچھ لینا، پانا، حاصل کرنا، کو کچھ ملنا۔ أَعْطَی دروسا: سبق دینا۔ أَعْطَی اقوالہ: گواہی دینا۔ أَعْطَی لہ الکلمةَ: کو بولنے کی اجازت دینا۔ أَعْطَاہُ بیدہ: کا مطیع ہونا۔ تَعَطَّی ہ: سے خیرات مانگنا؟ بھیک مانگنا۔ تَعَاطَی ہ: کچھ لینا۔ (دوا) لینا، نگلنا، (کام) سنبھالنا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑا اٹھانا، کو شروع کرنا، کو ذمہ لینا، اختیار کرنا، میں مشغول ہونا، کو کرتے رہنا، میں لگے رہنا۔ إِسْتَعْطَی بمعنی تَعَطَّی عَطًا: تحفہ، ہدیہ۔ عطاء جمع عطاء ات: پیش کش، نذر۔ قَدَّمَ عطاءً: نذر پیش کرنا۔ عَطَاء جمع أَعْطِیَة: تحفہ، ہدیہ۔ معاطاة: (کسی سرگرمی، عمل) کو حاصل کرنے کی کوشش، جستجو (کی پریکٹس، (کا) کام، مشق، استعمال۔ إعطاء: عطیہ، پیشکش، گرانٹ، عطیہ دینا، انعام، انعام دینا۔ إِسْتِعْطَاء: بھیک مانگنا، بھیک مانگ کر گزر کرنا۔ مُعْطٍ: دینے والا، عطیہ دینے والا۔ مُعْطًی: دیا ہوا جمع مُعْطَیات: دی ہوئی مقدار، کمیت، تعداد، مفروضات، امور معلومہ، مبینہ حقائق، (Data)۔ مُسْتَعْطٍ: بھکاری، منگتا۔

عظ: ۱۔ عَظَّ ـُ عَظًّا ہُ بالارض: کو زمین سے چپکا دینا۔ ـــ تہُ الحربُ: کو جنگ کا آزمانا، تکلیف پہنچانا۔ عَاظَّ مُعَاظَّةً و عِظَاظًا ہُ: سے برا سلوک کرنا، سے جان پر کھیل کر لڑنا۔ ـــ القومُ: جنگ میں ایک دوسرے سے سخت ہونا۔ العَظَّة: جنگ میں سختی۔

۲۔ عَظْعَظَ السهمُ: تیر کا جاتے ہوئے کانپنا اور ٹیڑھا ہو جانا۔ ـــ الجبانُ: بزدل کا لڑائی میں پیٹھ پھیرنا۔ ـــ فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔

عظب: ۱۔ عَظَبَ ـِ عَظْبًا الطائرُ: پرندہ کا تیزی سے اپنا پنکھ ہلانا۔

۲۔ عَظَبَ ـُ عَظْبًا و عُظُوبًا جلدہُ: کی کھال کا خشک ہونا۔ العَاظِب و العَظِب: جنگل اور خشک جگہوں پر اترنے والا۔

۳۔ عَظَبَ ـُ عَظْبًا و عُظُوبًا علی العمل: صبر سے کام کرتے رہنا۔ ـــ ت یدہُ: ہاتھ کا کام کی وجہ سے سخت ہونا۔ عَظِبَ ـَ عَظَبًا علی العمل: کام کی نگہداشت کرنا، کو صبر و استقامت سے برداشت کرنا۔ عَظَّبَ ہُ عن بُغیتہ: کی خواہش کو ٹالنا، کی خواہش میں تاخیر کرنا۔ ـــ ہُ علی الشیِٔ: کو کا عادی بنانا، کو پر صبر کرنے والا بنانا۔

۴۔ عَظِبَ ـَ عَظَبًا: موٹا ہونا، فربہ ہونا، صفت عَظُوب۔

۵۔ عِظْیَبُ الخُلُقِ: بدخو۔

عظر: عَظَرَ ـَ عَظْرًا الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ أَعْظَرَہُ الشرابُ: شراب کا کے معدہ میں ثقیل ہونا۔ اس سے العِظارة اسم آتا ہے۔ العِظَار: شراب کی وجہ سے امتلاء۔ العَظُور جمع عُظُر: شراب سے شکم سیر۔

عظل: ۱۔ عَظَلَ ـُ و عَظِلَ ـَ عَظْلاً و تعاظَلَ و اعْتَظَلَ ت الکلابُ او الجرادُ: کتوں یا ٹڈیوں کا ایک دوسرے پر سوار ہونا۔ عَظَّلَ ت الکلابُ او الجرادُ: کتوں اور ٹڈیوں کا ایک دوسرے پر سوار ہونا۔ ـــ القومُ علیہ: لوگوں کا کسی شخص پر مارنے کیلئے ہجوم کرنا۔ عَاظَلَ الشیَٔ: پر سوار ہونا۔ ـ فی الکلام: کلام میں تعقید لانا، کلام کی تکرار کرنا۔ الشاعرُ فی القافیة: تضمین کرنا۔ ـ بالکلام: اپنے پر لوٹ کر آنے والی بات کرنا۔ تَعَظَّلَ فی اثرہ: کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا، کا کھوج لگانا۔ تَعَظَّلَ القومُ علیہ: لوگوں کا کسی پر اسے مارنے پیٹنے کیلئے ہجوم کرنا۔ العَاظِل و العَاظِلَة و العَظْلَی من الجراد: ایک دوسرے پر سوار ٹڈی۔

۲۔ تَعَظْلَمَ اللیلُ: رات کا سخت تاریک و سیاہ ہونا۔ العَظْلَمَة: تاریکی۔

○ عَاظَلَ الکلامَ: اپنی گفتگو میں تکرار کرنا۔ معنوی تکرار سے کام لینا، بات کرتے ہوئے وہی کچھ دوبارہ کہنا۔

عظم: ۱۔ عَظُمَ ـُ عِظَمًا و عَظَامَةً: بڑا ہونا۔ صفت عظیم جمع عُظَمَاء و عِظَام و عُظُم۔ ـ الامرُ علیہ: پر کام مشکل ہونا، کے لئے بھاری، نا قابل برداشت ہونا، گراں ہونا، کو تکلیف دینا۔ عَظَّمَ ہُ: کی تعظیم و توقیر کرنا۔ أَعْظَمَ الامرُ: بڑا ہونا۔ ـــ الشیَٔ: کو بڑا کرنا، کو بڑا سمجھنا۔ کہتے ہیں۔ ما یُعظمنی ان افعل کذا: مجھے ایسا کرنے سے کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ تَعَظَّمَ: تکبر کرنا۔ تعاظَمَ: تکبر کرنا۔ ـ ہُ الامرُ: پر گراں ہونا، بڑا ہونا۔ کہتے ہیں۔ هو امرٌ لا یتعاظمہ شیٌٔ: یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ اِسْتَعْظَمَ: تکبر کرنا۔ ـــ الامرَ: کو بڑا سمجھنا۔ ـــ الشیَٔ: کا بڑا حصہ لینا۔ العُظْم: بڑائی۔ عَظْمُ الشیٔ جمع أَعْظَام: چیز کا بڑا یا بیشتر حصہ۔ العِظَم و الوِعْظَم: بڑائی۔ عَظَمُ الطریق: راستہ کا درمیان العُظَام و العُظَّام مونث عُظَامَة و عُظَّامَة: بڑا، عظیم۔ العِظَامَة و العُظْمَة و الإِعْظَامَة: وہ گدی جس کو عورتیں سرین

پر بڑا ظاہر ہونے کے لئے باندھتی ہیں۔ العُظَّامَة: بمعنی: العِظَامة ـ و العَظَمَة و العَظَموت غرور، نخوت، فخر۔ عَظَمَاتُ القوم: سرداران قوم۔ العَظِیْمَة جمع عَظَائِم: عظیم کا مونث۔ سخت مصیبت۔ عَظَائِمُ اللّٰہ: اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے کام، مُعْظَمُ الشیٔ جمع مَعَاظِم: کا بیشتر کا اکثر کہتے ہیں۔ إن لـفلان مَعَاظِمَ واجبة المراعاة: فلاں شخص کے لئے بڑے بڑے حقوق ہیں، جن کی رعایت ضروری ہے۔ المُعَظَّمَة: سخت مصیبت۔

۲۔ عَظَمَ ـُ عَظْمًا الکلبَ: کتے کو ہڈیاں کھلانا۔ ـــ عَظْمَةً الرجلَ: کی ہڈیوں پر مارنا۔ عَظَّمَ الشاةَ: بکری کی ہڈی ہڈی کاٹ دینا۔ اَعْظَمَ الکلبَ عَظْمًا: کتے کو ہڈی کھلانا۔ العَظْم (مص) جمع اَعْظُم و عِظَام و عِظَامَة ہڈی۔ العَظْمَة (مص) ہڈی کا ٹکڑا۔ العَظَمَة من الساعد او اللسان جمع عَظَمَات: کلائی یا زبان کا موٹا حصہ۔ العَظْمِیّ (ح): سفیدی مائل کبوتر۔

۳۔ اِسْتَعْظَمَ الامرَ: کا انکار کرنا۔

(۱) عَظُمَ ـُ عِظَمًا و عَظَامَة: بڑا، عظیم، شاندار، عالیشان، پرشکوہ، رعب دار، مرعوب کن، یا طاقتور ہونا یا ہوجانا، بہت بڑا، بہت وسیع، بہت ضخیم، مہیب، حیرت انگیز یا عظیم انسان ہونا۔ ـــ علی: کے لئے سخت رنجدہ، تکلیف دہ، ذہنی کوفت کا موجب یا ظالمانہ و مستبدانہ ہونا۔ عَظَّمَ ہ/ ہ کو زیادہ بڑا، زیادہ شاندار، زیادہ پرشکوہ، زیادہ رعب دار، زیادہ مرعوب کن یا زیادہ طاقت ور بنانا کے زیادہ بڑا، زیادہ شاندار وغیرہ بننے کا باعث ہونا، کی عظمت، بڑائی، شان، شوکت، طاقت، کروفر یا رونق وغیرہ بڑھانا۔ ـــ ہ کی قیمت یا دلکشی بڑھانا، کو بڑھانا، میں اضافہ کرنا کو بڑا کرنا، میں مبالغہ کرنا، بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ ـــ ہ/ ہ کو بڑھانا، چڑھانا، ترقی دینا، عظمت عطا کرنا، کی ثنا کرنا، حمد کرنا، ستائش کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا، سرفراز کرنا، اَعْظَمَ بمعنی عَظَّمَ نیز اَعْظَمَ ہ کو بہت اہمیت دینا، کو بڑا، وسیع، مہیب، عظیم، بہت بڑا یا حیرت انگیز، عظیم الشان سمجھنا۔ ـــ ہ کو سخت، رنج دہ، ظالمانہ یا مستبدانہ پانا۔ تَعَظَّمَ ب پر فخر کرنا، کی ڈینگ مارنا، بڑا بنانا، کو لہرا لہرا کر فخر سے دکھانا۔ ـــ خود پسند، مغرور یا متکبر ہونا، دیدہ دلیری کرنا۔ تَعَاظَمَ مغرور ہونا، متکبر ہونا، پرنخوت، بڑا ہونا، شاندار ہونا، پرشکوہ ہونا، رعب دار ہونا، مرعوب کن ہونا، وسیع ہونا، حیرت انگیز ہونا۔ ـــ ہ وزن، معنی، مفہوم یا مطلب اور اہمیت میں کے برابر ہونا۔ ـــ ہ: کے لئے وزن دار، سنجیدہ، تشویشناک، سنگین یا غیر معمولی ہونا۔ لا یتعاظمه شانُ العدو: دشمن کی اہمیت اسے بہت زیادہ یا ناجائز طور پر متاثر نہیں کرتی۔ اِسْتَعْظَمَ: مغرور ہونا، متکبر ہونا، نخوت پسند، دیدہ دلیر ہونا۔ ـــ ہ کو بڑا، معنی خیز یا اہم سمجھنا۔ صاحب العظمة: اعلیٰ حضرت، والا حضرت His Highness۔ اعلیٰ حضرت، جہاں پناہ، ولی نعمت، جلالة الملک His Majesty۔ عظمة السلطان: اعلیٰ حضرت، والا حضرت سلطان۔ His Highness the Sultan۔ فرصة عظیمة سنہری موقعہ۔ عِظَامِی: عالی خاندان کا، خاندانی، امیرانہ انداز والا، امیر، شریف آدمی۔ اعاظم رجال مصر: قاہرہ کے نمایاں ترین مرد۔ جریمة عُظْمَی: مستوجب قتل جرم (Capital crime)۔ السواد الاعظم: عظیم اکثریت، عوام کی اکثریت۔ الصدر الاعظم: سابق سلطنت عثمانیہ میں وزیر اعظم کا لقب، فی مُعْظَمِه: زیادہ تر، بیشتر، عموماً، بالعموم، عام طور پر۔

عظا: عَظَا ـُ عَظْوًا فلانا: کو غمگین کرنا، کی غیبت کرنا، کو بھلائی سے روکنا، کو زہر پلانا۔

عظی: عَظِیَ ـَ عَظًی فلاناً: کو غمگین کرنا۔ العِظَاءة والعَظَاءة والعِظَایة والعَظَایة جمع عَظَاء والعِظَاءة والعَظَایة والعِظَایة جمع عَظًا و عِظَاء و عَظَایا و عَظَایات (ح) ایک جانور چھپکلی کے مشابہ، عوام کے ہاں سَقَّایة کے نام سے معروف ہے۔ بڑی چھپکلی۔

عف ۱۔ عَفَّ ـِ عَفًّا و عِفَّة و عَفَافًا و عَفَافَة حرام یا غیر مستحسن کام سے رکنا، پاکدامن ہونا، صفت عَفِیف و عَفّ جمع اَعِفَّة و اَعِفَّاء و عَفُّون ـ م عَفِیفة و عَفَّة جمع عَفِیفات و عَفَائِف و عَفَّات۔ ـ عن کذا: سے اجتناب کرنا، سے رکنا۔ اَعَفَّ اللّٰه فلانا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو پاکدامن کرنا۔ تَعَفَّفَ پاکدامن ہونا، پاکدامن بننا۔ ـ عن کذا: سے باز رہنا۔ اِعْتَفَّ و اِسْتَعَفَّ عن الخبیث: کریہ چیز یا کام سے رکنا۔ ـــ البعیرُ الیبیسَ: اونٹ کا مٹی کے اوپر، اوپر کی خشک گھاس چرنا۔ العِفَّة (مص) پارسائی، پاکدامنی، طہارت بدن۔

۲۔ تَعَفَّفَ تھن کے بقیہ دودھ کو پینا۔ تَعَافَّ الناقةَ اونٹنی کو دوسری بار دوہنا۔ العُفَّة والعُفَافَة تھن کا بقیہ دودھ کہتے ہیں۔ سالته فما أعطاه الا عُفَافَة اس نے اس سے مانگا تو تھوڑا سا دیا۔

۳۔ تَعَافَّ المریضُ علاج کرنا۔ العِفَاف دواء۔

۴۔ العِفَّان: کہتے ہیں، جاء علی عِفَّانِ ذلک: وہ وقت پر آیا۔ وہ فلاں وقت میں آیا۔

(۱) عَفَّ ـِ عِفًّا و عفافًا عن: حرام اور فحش اور ناشائستہ کاموں سے پرہیز کرنا۔ عَفَّ ـِ عِفًّا و عَفَافًا عیاشی سے احتراز کرنا، پارسا ہونا، نیک ہونا، پرہیز گار ہونا، عفیف ہونا، پاکباز، شریف یا حیادار ہونا، پاک ہونا۔ تَعَفَّفَ بمعنی عَفَّ نیز تعفف عن: سے دبکنا، سے کترانا، سے بچنا، سے کنی کترانا۔ سے شرمسار ہونا، خجل ہونا۔ عَفّ: پاکدامن، پاکباز، نیک، پاک، مہذب، شائستہ، دیانت دار، خداترس، عَفَاف و عِفَّة عیاشی سے احتراز یا پرہیز گاری، پارسائی، نیکی، پاکدامنی، پاکیزگی، شستگی، سلیقہ، معقولیت، شرافت، حیا، پاکبازی، دیانت، دیانت داری، ایمانداری،

عفیف: بمعنی عَفّ۔ اعف بُرا زیادہ پاکدامن، زیادہ نیک، زیادہ معقول، زیادہ مہذب، زیادہ شائستہ، زیادہ دیانتدار۔ تَعَفُّف پرہیز گاری، پارسائی، نیکی، شرافت، حیا، پابندی۔ مُتَعَفِّف بمعنی عفیف۔

عفت: عَفَتَ ـِ عَفْتًا الشیٔ: کو موڑنا، توڑنا ـ کلامَهُ و فی کلامِهِ بوجہ لکنت بولنے میں منہ ٹیڑھا کرنا صفت: عَفَّات

عفج: عَفَجَ ـِ عَفْجًا ہ بالعصا: کو لاٹھی مارنا۔ العَفْج والعِفْج والعَفَج والعَفِج جمع اَعْفَاج و عِفَجَة: آنت، امعا۔ المِعْفَجَة والمِعْفَاج لاٹھی، کپڑے دھونے کی موگری۔ عوام اسے مِخبَاط کہتے ہیں۔

عفد: عَفَدَ ـِ عَفْدًا و عَفَدَانًا: دونوں پیر ملا کر کودنا۔ اِعْتَفَدَ: بھوک سے مرنے کیلئے اپنے آپ پر دروازہ بند کر لینا اور سوال نہ کرنا۔

عفر ۱۔ عَفَرَ ـِ عَفْرًا فی التراب کو مٹی میں لتھیڑنا، زمین میں دھنسانا۔ الشیٔ کو زمین پر پٹک دینا۔ عَفِرَ ـَ عَفَرًا و اِسْتَعْفَرَ خاکستری رنگ کا ہونا، خاک آلود ہونا۔ صفت: اَعْفَر۔ عَفَّرَہُ فی التراب: کو مٹی میں لتھیڑنا، زمین میں دھنسا دینا۔ کہتے ہیں۔ قد عُفِّرَ و اُرْغِمَ: اُسے ذلیل کیا گیا۔ ـــ ت المرأة فی الفطام (عورت کا) بچہ کا دودھ چھڑانے کیلئے پستان پر مٹی لگانا۔ تَعَفَّرَ و انْعَفَرَ فی التراب: مٹی میں لوٹنا۔ ـــ الشیٔ خاک آلود ہونا۔ اِعْتَفَرَ الشیٔ: خاک آلود ہونا۔ الثوبَ فی التراب: کپڑے کو مٹی میں لتھیڑنا۔ ـــ الرجلَ کو زمین پر پٹک دینا۔ العَفْر و العَفَر (مصدر) جمع اَعْفَار: مٹی، خاک، العِفْر و العُفْر (ح) نو سؤر

مطلق سؤر۔ العُفرۃ: خاکی رنگ۔ الأعْفر (ح): ہرن کی ایک قسم جو دوڑنے میں کمزور ہوتا ہے۔ العَفراء جمع عُفر: اعفر کا مونث۔ العَفِیر والمَعْفور: مٹی میں لتھڑا ہوا۔

۲۔ عَفَّرَ الشیئَ: کو سفید کرنا۔ تعافَرَ الثریدُ: ثرید کا سفید ہونا۔ العَفراء: سفید زمین۔ — من لیالی القمر: چاند کی تیرھویں رات۔

۳۔ عَفَّرَ اللحمَ: گوشت کو دھوپ میں ریت پر خشک کرنا۔ عُفُرۃٌ وعُفُرَّۃٌ وعَفُرَّۃُ الحرِّ: گرمی کی شدت۔ العَفِیر: دھوپ میں ریت پر خشک کیا جانے والا گوشت۔

۴۔ عَفَرَ الکرمَ ونحوہُ: کٹائی کے بعد انگور وغیرہ کے بچے ہوئے پھل جمع کرنا۔ ایسے پھل کو عُفارہ کہتے ہیں (عام زبان میں)۔ العَفّار: کٹائی کے بعد انگور وغیرہ کے پھل جمع کرنے والا (عام زبان میں) المُعافِر: ساتھیوں کے ہمراہ چلنے والا تاکہ ان کے بچے ہوئے سے کچھ حاصل کرے۔

۵۔ اِعْتَفَرَ الرجُلَ: پر کودنا۔ — فلانٌ: قادر ہونا، قوی ہونا۔ — ہُ الاسدُ: شیر کا اپنے شکار کو پچھاڑنا، چیرنا پھاڑنا۔ العُفُر: بہادر، بہت موٹا۔ العِفر: زسور۔ رجل عِفْرٌ: خبیث مرد۔ رجُلٌ عِفرٌ وعِفرّی و عُفارِیَۃ: خبیث مرد۔ العُفُرۃ والعَفَرۃ من الدیلک: مرغ کی گردن کے بال۔ — من الانسان: انسان کے درمیانی سر کے بال۔ — من الاسد: شیر کے ایال۔ العَفارۃ: خباثت، برائی۔ العِفرِیۃ: بڑا سخت مکار، خبیث — والعِفراۃ من الدیلک: مرغ کی گردن کے بال۔ من الانسان: انسان کے سر کے پچھلے حصہ کے بال، کہتے ہیں۔ جاء ناقِشًا عِفرِیَتَہٗ: وہ غصہ میں بھرا ہوا آیا۔ العِفرِّین: کامل قوی مرد، چالاکی سے کاموں کو کرڈالنے والا۔ عِفرِّین شیروں سے بھری ہوئی جگہ۔ لیثُ عِفرِّین شیر۔

۶۔ العُفُر: دوری، طوالت زمانہ۔ العُفَرۃ: مخلوط لوگ۔ عُفُرَّۃٌ و عَفَرَّۃُ البرد: سردی کی شدت۔ العَفار (واحد عفارۃ) بغیر شکر کا ستو۔ (ن) وہ درخت جس سے آگ نکالنے کا کام لیا جائے۔ العَفّار: مادہ کھجور میں نر کھجور کا ٹیکہ (پھول) لگانے والا۔ خُبزٌ عَفِیرٌ: بے سالن کی روٹی۔ العُفَیرۃ: کبرپلا کی گولی۔

۷۔ تعفرَتَ: نویو ہونا، شریر ہونا۔ العِفریتۃ جمع عَفارِیت مونث۔ عِفریَتۃ: سخت خبیث، چالاکی سے کاموں کو کرڈالنے والا (انسان، جنات اور شیاطین میں سے)۔

۸۔ عَفرَسَ ہُ: کو پچھاڑنا، پر غالب آنا۔ العِفْرِس والعِفرِیس والعِفراس والعُفروس والعَفَرنَس (ح): شیر۔ العَفارِیس (ح) شترمرغ۔

○ عَفر ۔ عَفرًا ہ/ ہ (بالتراب) کو مٹی سے ڈھانکنا، کو گندا کرنا، پر دھبا ڈالنا، کو مٹی سے بھرنا، کلونسنا۔ عَفر بمعنی عَفر نیز عَفَّرَ ہ پر مٹی چھڑکنا، بالیں جمع کرنا۔ عَفر جمع اَعْفار: دھول گرد، غبار، گرد و غبار۔ عُفار دھول، گرد، غبار، گرد و غبار۔ عَفارۃ جمع عَفارات: پھوار۔ اَعْفر م عَفراء: خاکی رنگ کا۔ یَعْفُور: خاکی رنگ کا ہرن۔ غزال۔ تعفیر: چھڑکنا، غبار یا پاؤڈر چھڑکنا۔ تعَفرَتَ: بھوت پریت یا شیطان جیسا رویہ اختیار کرنا یا ان کی طرح پیش آنا۔ عِفریت جمع عَفاریت: بغض پرور، کینہ جو، بدباطن، شرارتی، شرانگیز، عیار، مکار، کائیاں، فریبی، چالباز، بھوت پریت، آسیب، بدروح، بھوت، بے رحم خونخوار شخص، شیطان کا بچہ، بھتنا، شیطان، شوخ و شرارتی بچہ۔ ولدُ عفریت: شرارتی بچہ، ناکارہ شخص۔ عَفرِیتَۃ: اونچا کرنے کی کل، جیک (Jack) عَفرکۃ: بے رحمی، خونخواری، بدبدمعاشی، بدذاتی، شیطانی فن، کالا علم جادو، گندا فریب، دھوکا، چال۔ عَفارِم: شاباش! مرحبا! (Well done! bravo)۔

عفس: ۱۔ عَفَسَ ۔ عَفْسًا ہ: کو پچھاڑنا اور روندنا، کو زمین پر چت پا دینا، کو زمین سے لگا دینا، کو سختی کے ساتھ زمین کی طرف کھینچنا۔ — ہُ برجلہٖ: کی سرین پر لات مارنا۔ عَافَسَ ہٗ: سے کشتی لڑنا، کی طرف توجہ کرنا۔ کہتے ہیں۔ بات یعافِسُ الامورَ: وہ معاملات سے نپٹنے لگا۔ تعافَسَ واعتَفَسَ القومُ: آپس میں کشتی لڑنا۔

۲۔ عَفَسَ ۔ عَفْسًا ہُ عن حاجتہ کو اس کی ضرورت سے باز رکھنا، روکنا۔ — الماشیۃ: جانوروں کو چارہ کے بغیر رکھنا۔

۳۔ اِنْعَفَسَ فی التراب: خاک آلود ہونا۔ — فی الماء: پانی میں غوطہ لگانا۔ العِفاس فساد۔

عفش: عَفَش ۔ عَفْشًا الشیئَ: کو جمع کرنا۔ العَفْشُ (مص) عند العامۃ: سامان، کہتے ہیں۔ شیٌ عَفْشٌ نَفْشٌ: چیز جس میں کوئی اچھائی نہ ہو۔ العُفاشۃ: ناکارہ لوگ۔ الاَعْفَش: کمزور نظر والا۔

○ عَفَش: فضلہ، گندگی، غلاظت، میلا، ردی چیز، فضول شے، کاٹھ، کباڑ، ردی مال، سامان، گھر کا منقولہ سامان، فرنیچر (کرسی میز وغیرہ)۔

عفص: ۱۔ عَفَصَ ۔ عَفْصًا ہ: کو اکھیڑنا۔ — حَقّہٗ منہ: سے حق لے لینا۔

۲۔ عَفَصَ ۔ عَفْصًا الرجُلَ: پر کشتی میں غالب آنا۔ عَافَصَ مُعافَصَۃً ہ: سے کشتی لڑنا۔

۳۔ عَفَصَ ۔ عَفْصًا ہُ: کو موڑنا۔ — واَعْفَصَ القارُورۃَ: شیشی میں کارک لگانا۔ العَفَص: ناک کا ٹیڑھا پن۔ العِفاص: کارک، ڈاٹ، شیشی کا سربند۔

۴۔ عَفَّصَ الثوبَ: کپڑے کو مازو سے رنگنا۔ اُعْفُص الحِبرَ: روشنائی میں مازو ڈالنا۔ العَفْص (واحد عَفْصَۃ): مازو، مازو کا پیڑ۔ درخت بلوط کی ایک قسم۔ العَفْصِیَّۃ (ن): سرو درخت کی ایک قسم۔

۵۔ العَفِص کسیلا۔ العُفوصۃ کسیلا پن۔

○ عَفْص شاہ بلوط کے سیب، مازو، ماجو۔ عَفِص تیز، ترش، قابض اور تلخ۔ عُفُوصۃ: تیزی، ترشی، تلخی، کسیلا پن۔

عفط: ۱۔ عَفَطَ ۔ عَفْطًا و عَفِیطًا و عَفَطانًا ت العنزُ: بکری کا ریح خارج کرنا۔ — ت الضَّأنُ: بھیڑ کا چھینکنا۔ — عَفْطًا الراعی: چرواہے کا بکری کے گوز کی طرح آواز نکالنا۔ بغنمہ: بھیڑ کو ڈانٹنا یا بلانا اور اس کے لئے بھیڑ کی چھینک کی مانند آواز نکالنا۔ العَافِط (فا) والعَفِط: بہت گوز مارنے والا۔ العَافِطَۃ: عافط کا مونث، بھیڑ، کہتے ہیں۔ مالَہٗ عافِطَۃٌ ولا نافِطَۃٌ: اس کے پاس نہ بھیڑ ہے نہ بکری۔ جو اس بات کا کنایہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔

۲۔ عَفَطَ ۔ عَفْطًا فلانٌ بکلامہ لکنت کرنا۔ العَفّاط والعِفاطِیّ والعِفطِی: ہکلا، لکنت والا۔

۳۔ الاَعْفَط احمق۔

عفق: ۱۔ عَفَقَ ۔ عَفْقًا الرجُلُ: غائب ہونا، جلدی سے چلا جانا۔ اِنْعَفَقَ فی حاجتہ: اپنے کام میں جلدی کرنا۔

۲۔ عَفَقَ ۔ عَفْقًا الرجُلُ: بلاضرورت، آتے جاتے رہنا۔ تھوڑا سو کر جاگ اٹھنا پھر سو جانا۔ عَافَقَ مُعافَقۃً وعِفاقًا ہٗ: کو فریب دینا۔ — الذئبُ الغنمَ: بھیڑیے کا آتے جاتے بکریوں کو نقصان پہنچانا۔ اَعْفَق: بلاضرورت اکثر آتے جاتے رہنا۔ رجُلٌ مِعفاق الزیارۃ: بہت ملاقاتیں کرنے والا۔

۳۔ عَفَقَ ۔ عَفْقًا ہُ عن الامر: کو سے روکنا، موڑنا۔ — علیہ الصیدَ: کی جانب ہانک کر لانا شکار کو۔ عَفَقَ الغنمَ بعضھا عن بعض: بکریوں کو ایک دوسرے کے راستہ سے ہٹانا۔ اِعْتَفَقَ الاسدُ فریستہ شیر کا شکار کی طرف لپکنا۔ المُنْعَفِق: پانی پر سے واپس ہونے والا۔

۴۔ عَفَقَ ـِ عَفْقًا بالسوط: کو کوڑے سے بہت مارنا۔ ـَت الریحُ الشیَٔ: ہوا کا کسی چیز کو حرکت دینا، ہلانا۔ اِعْتَفَقَ القومُ بالسیوف: تلوار بازی کرنا۔

۵۔ عَفَقَ ـِ عَفْقًا الحمارُ: گدھے کا گوز مارنا۔ العَفَاقَةُ: دبر۔

۶۔ عَفَقَ ـِ عَفْقًا الشیَٔ: کو جمع کرنا۔ تَعَفَّقَ بہ: کی پناہ لینا، کے پاس پناہ لینا۔

۷۔ عَفَقَ ـِ عَفْقًا العملَ: کام کو ادھورا کرنا۔

عفك: عَفَكَ ـِ عَفْكًا الکلامَ: سیدھی طرح بات نہ کرنا۔ عَفِكَ ـَ عَفَكًا و عُفْكًا: بہت بیوقوف ہونا۔ صفت اَعْفَكُ و عَفِكٌ و عَفِيكٌ م عَفْكَاء جمع عُفْكٌ۔ الاَعْفَكُ: بائیں ہاتھ سے کام کرنیوالا۔

عفن ۱۔ عَفَنَ ـِ عَفْنًا اللحمَ: گوشت کو بدبودار کرنا۔ عَفِنَ ـَ عَفَنًا و عُفُونَةً و تَعَفَّنَ الشیُٔ: تری کی وجہ سے خراب ہونا۔ ـــ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت عَفِنٌ و مَعْفُونٌ و مُعَفَّنٌ و مُتَعَفِّنٌ۔ عَفَّنَ اللحمَ: گوشت کو بدبودار کرنا۔ عام لوگ عَفَّنَ لازم استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ عَفَّنَ الطعامُ: یعنی کھانا خراب ہو گیا اور بدبودار ہو گیا۔ اَعْفَنَ الشیَٔ: کو بدبودار پانا۔ العَفَن و العُفُونة: سڑاند۔ الامراض العفنة: مفسد خون بیماریاں جو متعدی ہوتی ہیں۔

۲۔ عَفَنَ ـِ عَفْنًا فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔

(ج) عَفِنَ ـَ عَفَنًا و عفونةً: گلنا، سڑنا، گلا سڑا ہونا، بگڑنا، خراب ہونا، پھپھوندی والا ہونا، پھپھوندی لگا ہونا۔ تعفّن بمعنی عَفِنَ ب۔ عَفِن: گلا سڑا، خراب، پھپھوندی والا، خراب، جراثیم زدہ۔ مفسد خون، بدبودار، متعفّن، عفونت دار۔ عَفَن و عُفُونَة و تَعَفُّن: گلا سڑا ہونا، خرابی، بگاڑ، بوسیدگی۔ مُعَفَّن و مُتَعَفِّن بمعنی عَفِن۔

عفا ۱۔ عَفَا ـُ عَفْوًا عنه وله ذَنْبَهُ و عفا عن ذَنْبِهِ: کو معاف کر دینا، سزا نہ دینا۔ ـــ اللّٰه عنه: اللہ تعالیٰ کا گناہوں کو معاف کرنا۔ ـــ عن الشیٔ: سے رکنا۔ ـــ عن الحق: حق ساقط کرنا۔ ـــ الصوفَ: اون کاٹنا۔ ـــ ت الریحُ الاثرَ او المنزلَ: ہوا کا نشان یا رکنے کی جگہ کو مٹا دینا۔ ـــ عَفْوًا و عَفَاءً و عُفُوًّا الاثرُ او المنزلُ: نشان یا رکنے کی جگہ کا مٹ جانا۔ ـــ اثرُ فلان: ہلاک ہونا، مرنا۔ عَفّی ت الریحُ المنزلَ: ہوا کا رکنے کی جگہ کو مٹا دینا۔ ـــ ت العلّةُ صاحبَها: بیماری کا مریض کو ہلاک کرنا۔ ـــ علی ما کان منه: کی بگڑنے کے بعد اصلاح کرنا۔ عَافَی مُعَافَاةً و عِفَاءً و عَافِيَةً اللّٰه فلانًا: اللہ تعالیٰ کا فلاں کو صحت دینا، بلا اور برائی سے بچانا۔ اَعْفَی اِعْفَاءً اللّٰهُ فلانًا: اللہ کا فلاں کو عافیت دینا۔ ـــ المریضُ: بیمار کا تندرست ہو جانا۔ ـــ هُ من الامر: کو کسی بات سے بری کر دینا۔ ـــ زیدًا بحقّه: زید کے حق کو پورے طور پر ادا کر دینا۔ تَعَفّی تَعَفِّيًا: مٹنا اور مضمحل ہونا۔ تَعَافَی تَعَافِيًا: عافیت پانا۔ الشیَٔ: چیز کو چھوڑ دینا۔ اِعْتَفَی تِ الابلُ الیبیسَ: اونٹوں کا اوپر اوپر سے خشک گھاس کا چرنا۔ اِسْتَعْفَی ت الابلُ الیبیسَ: اونٹوں کا اوپر اوپر سے گھاس چرنا۔ الرجلُ مُکَلِّفَهُ: مکلف سے معافی چاہنا، کہتے ہیں۔ استعفی من الخروج فاَعْفَاهُ: سے درخواست کرنا کہ وہ اسے چھوڑ دے اور یہ درخواست قبول کر لینا۔ العَفَاء (مص): مٹی، بارش، گھروں کی بربادی ہلاکت۔ العَفْو (مص): زمین جس میں کوئی نشان نہ ہو۔ العَافِی (فا) جمع عُفَی: مٹنے والا، معاف کرنے والا۔ درگزر کرنے والا۔ العَافِيَة (مص) یا عَافِی کا اسم جمع عَافِيَات و عَوَافٍ: کامل صحت۔ العَفُوّ: معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا (مفعول بمعنی فاعل) کہتے ہیں۔ رجلٌ عَفُوٌّ عن الذنب: بہت معاف کرنے والا۔ العَفْوَة: دیت۔ خون بہا۔

۲۔ عَفَا ـُ عُفُوًّا الشیَٔ: کو زیادہ کرنا۔ ـــ علیه فی العلم: سے علم میں بڑھ جانا۔ ـــ الشیُٔ: زیادہ اور لمبی ہونا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کا سبزی سے ڈھک جانا۔ ـــ وعَفَی یَعْفِی عَفْيًا الشعرَ: بالوں کو چھوڑ دینا تا کہ وہ لمبے اور گھنے ہو جائیں۔ اَعْفَی اِعْفَاءً الشعرَ: بالوں کو چھوڑ دینا تا کہ وہ لمبے اور گھنے ہو جائیں۔ کہتے ہیں۔ احفوا الشواربَ و اَعفوا اللحی: مونچھیں مونڈ ڈالو اور داڑھیوں کو گھنا اور لمبا ہونے کے لئے چھوڑ دو۔ ـــ الرجلُ: بہت مالدار ہونا۔ العِفَاء: زیادہ لمبے بال۔ شترمرغ کے پر، جب وہ بہت ہوں۔ اونٹ کے بال۔ العَافِی جمع عُفِیّ: لمبے بالوں والا۔ العِفْوَة و العُفْوَة: مرد کے سر کے بال۔

۳۔ عَفَا ـُ عَفْوًا فلانًا: کسی کے پاس طلب معروف کے لئے آنا۔ اَعْفَی اعفاءً الرجلَ: کو دینا، عطا کرنا۔ ـــ الرجلُ: زائد مال کو خرچ کر دینا۔ اِعْتَفَی اِعْتِفَاءً و فلانًا: کے پاس طلب معروف کیلئے آنا۔ العَافِی جمع عُفَاة و عُفِیّ و عافِيَة: ہر طالب بخشش یا رزق۔ کہتے ہیں۔ کثرت علی الکریم عافیته (کی پر بخشش طلب کرنے والوں کی کثرت ہوگئی۔) دیگ کا نچلا شوربا، گھاس پانی طلب کرنے والا۔ گھاٹ پر اترنے والا مہمان۔ العَافِيَة جمع عَافِيَات و عَوَافٍ: بہ رزق طلب کرنے والا۔ العَفْو (مص) فضل و معروف۔ عمدہ چیز۔ ـــ من المال: خرچ سے زیادہ مال جس کا دینا اس کے مال کے لئے دشوار نہ ہو۔ کہتے ہیں۔ اَعْطَيْتُهُ عَفْوًا: میں نے اسے بغیر سوال کئے دیا۔ فَعَلَهُ عَفْوًا یعنی اس نے وہ کام اپنے آپ کیا، بیساختہ کیا۔ العَفْوَة و العُفْوَة: ہانڈی کا جھاگ۔ العِفْوَة: ہانڈی کا جھاگ۔ عِفْوَةُ الشیٔ: چیز کا خالص۔ عِفْوَةُ الطعام و الشراب: عمدہ کھانا و پانی العُفَاوَة: دیگ کا نچلا شوربا، ہانڈی، ہانڈی کا جھاگ۔ العِفَاوَة: یخنی۔ شوربے کا اچھا حصہ جو کسی معزز کو دیا جائے۔ ـــ والعُفَاوَة: ہانڈی کا جھاگ۔ العَفْوِيَّة: بیساختہ کام۔ رضا کارانہ کام۔ المُعْفِی: ساتھی جو کسی صلہ کا طالب نہ ہو۔

۴۔ العَفَاء: آنکھ کا پھولا۔ العَفَا و العَفْو و العِفْو و العُفْو جمع عِفَاء و عِفْوَة (ح): گدھے کا بچہ۔ العَفْوَة جمع عَفْو (ح): گدھے کا مادہ بچہ۔

(ج) عَفَا ـُ عَفْوًا و عَفَاءً: مٹنا، مٹ جانا، محو ہونا، کا نام و نشان مٹنا، دھو ڈالا ہوا ہو جانا، نظر انداز کیا جانا۔ عَفَا ـُ عَفْوًا ہ / عن: کو مٹا دینا، محو کر دینا، کا نام و نشان مٹا دینا، کو دھو ڈالنا، کو خارج کر دینا۔ ـــ عن: کو معاف کر دینا۔ ـــ ل عن: کو سے معاف کرنا، آزاد کرنا، کو سے چھٹی دینا، کو سے مستثنیٰ کرنا۔ ـــ عن: سے باز رہنا، اجتناب کرنا، احتراز کرنا۔ عَفّی ہ / علی: کو مٹا دینا، محو کر دینا، دھو ڈالنا، کو خارج کر دینا۔ عَافَا و اَعْفَاه: کو صحت دینا، کو صحت یاب کرنا۔ کو تندرست کرنا۔ ـــ ہ من / عن: کی سے حفاظت کرنا، کو سے محفوظ رکھنا، کو سے بچانا کو سے مستثنیٰ کرنا، آزاد کرنا، کو سے نجات دینا۔ ـــ ہ من / عن: کو سے معافی دینا۔ اَعْفَی ہ: کو برخاست کرنا، سبکدوش کرنا، معزول کرنا، تخت سے اتارنا۔ تَعَافَی: صحت یاب ہونا۔ اِعْتَفَی ہ: کچھ لینے کے لئے کے پاس جانا۔ اِسْتَعْفَی ہ: سے معذرت خواہ ہونا، سے معافی طلب کرنا، سے درخواست کرنا کہ وہ اسے کسی بات سے مستثنیٰ قرار دے۔ (صلہ من)۔ ـــ من: سے استعفاء دینا، سے مستعفی ہونا۔ عَفْو: مٹانا، محو کرنا، خارج کرنا، معافی، سزا کی معافی۔ ـــ عن: کیلئے عام معافی۔ عنایت، مہربانی، کرم فرمائی، نوازش، کرم، پاسداری۔ عَفْوًا: میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے معاف کیجئے۔ (آپ کا شکریہ کے جواب میں) بڑے شوق سے، اس کا ذکر نہ کریں۔ اپنے آپ، خود بخود، بے ساختہ، اتفاقاً، یونہی، کسی منصوبہ کے بغیر، بر سبیل تذکرہ ضمناً، عفو عام (عن کے لئے): عام معافی) حق العفو عن العقوبة: معاف کرنے

کا حق۔ عَفوَ الخاطرِ: بیساختہ، بلا جھجک، اتفاقاً۔ عفو جمع عِفا: نوجوان گدھا۔ عَفوی: آپ سے آپ، اپنے آپ، خود بخود، بیساختہ۔ عَفِی: مضبوط، طاقت ور، ہٹا کٹا، قوی۔ عَفَاء: مٹانا یا مٹنا، محو کرنا یا ہونا، ناپید ہو جانا، تباہی، خاتمہ، زوال، سقوط، دھول، گرد، غبار، گرد و غبار۔ اَدْرَکَہُ العفاء: یہ رائج نہیں رہی۔ علیہ العفاءَ: وہ برباد ہو چکا، وہ لٹ گیا۔ مُعَافَاۃ: استثنیٰ، عذر، معذرت، اعتذار، اسقاط قرض۔ اِعفاء: (فیس وغیرہ سے)، استثناء، عذر، معذرت، اعتذار، اسقاط قرض، سزا سے معافی، برخاستگی، سبکدوشی، معزولی (کسی عہدہ سے) اِستِعفاءٌ: معافی کی درخواست، عذر، معذرت، اعتذار۔ ـ من: سے استعفاء۔ عافٍ مٹا ہوا، محو شدہ، دھویا ہوا، خارج کیا ہوا۔ عَافِیَۃٌ: اچھی صحت، صحت، بہبود، خوشحالی۔ طاقت۔ کس بل، دم خم، مُعَافًی مِن: سے مستثنیٰ، سے آزاد، سے معافی دیا گیا۔ صحت مند تندرست۔

عق ۱۔ عَقَّ ـُ عَقًّا الثوبَ: کپڑا پھاڑنا۔ ـــ ت الریحُ المزنَ: ہوا کا بارش برسانا۔ ـــ ت الدلوُ: ڈول کا کنویں سے بھرا ہوا نکلنا۔ عُقُوقًا و مَعَقَّۃً الولدُ والدَہٗ: لڑکے کا اپنے والد کی نافرمانی کرنا، شفقت اور اچھا سلوک کرنا چھوڑ دینا، اور اسے کوئی اہمیت نہ دینا۔ صفت عَقّ و عَاقّ جمع عَقَقَۃ و اَعِقَّۃ و اَعَقُّ و عُقَق و عُقَّق۔ عَاقَّ مُعَاقَّۃً اَباہ: اپنے والد کی مخالفت کرنا۔ اَعَقَّ فلانٌ: نافرمانی کرنا۔ الکرمُ: انگور کی بیل کا جڑوں سے شاخ نکلنا۔ انْعَقَّ پھٹنا۔ ـــ الوادی: وادی کا گہرا ہونا۔ الغبارُ: غبار بلند ہونا۔ ـــ البرقُ: بجلی کا بادل میں چھپ جانا۔ اِعْتَقَّ: پھٹنا۔ ـــ السیفُ: تلوار سونتنا۔ العاقّ جمع عاقُّون و عَقَقَۃ و اَعِقَّۃ م عَاقَّۃ جمع عَوَاقّ و عاقات: اسم فاعل۔ العِقَّۃ جمع عِقَق: نوزائیدہ بچے کے بال۔ العقیقُ: نوزائیدہ بچے کے بال۔ ـ جمع اَعِقَّۃ: وادی اور ہر پانی بہنے کی جگہ جس کو سیلاب نے وسیع کر دیا ہو۔ کہتے ہیں۔ سَالَ العقیقُ: اس معنی میں ہے کہ پانی وادی میں بہا یا پانی ندی (نالہ) میں بہا۔ العقیقۃ: نوزائیدہ بچے کے بال۔ دریا۔ وہ بکرا یا بکری جو پیدائش کے ساتویں دن بعد بال مونڈتے وقت ذبح کی جائے۔ عِقَّان الکرم او النخیل: وہ شاخیں جو انگور کی بیل یا کھجور کے درخت کی جڑوں سے نکلیں۔

۲۔ عَقَّ ـ عَقَقًا و عَقَاقًا و عِقَاقًا ت الفرسُ: گھوڑی کا حاملہ ہونا صفت عَقُوق العَقُوق من الخیل جمع عُقُق و جج عِقَاق: حاملہ گھوڑی یا غیر حاملہ گھوڑی۔ اَعَقَّ ت الفرسُ: گھوڑی کا حاملہ ہونا۔ صفت: عَقُوق۔

۳۔ اِنعَقَّ ت العقدۃُ: گرہ کا مضبوط ہونا۔

۴۔ اِعْتَقَّ المُعتذرُ: معذرت خواہ کا عذر کے بیان میں مبالغہ کرنا۔

۵۔ العَقّ و العَقَّۃ من الماء: کڑوا پانی۔ العَقِیق (واحد عقیقۃ): سرخ مہرے۔ العقیقۃ: توشہ دان۔ تیر جس کو جاہلیت کے زمانہ میں سہم الاعتذار کہتے تھے اور خون کے بدلے کا فیصلہ کرنے کیلئے آسمان کی طرف پھینکتے تھے اگر خون میں لت پت واپس آتا تو قصاص لیتے اور اگر صاف آتا تو داڑھیوں پر ہاتھ پھیرتے اور دیت پر مصالحت کر لیتے تھے۔ داڑھیوں پر ہاتھ پھیرنا مصالحت کی علامت تھی۔

۶۔ عَقْعَق عَقْعَقَۃً الطائرُ بصوتہ: پرندے کا کنکری کرنا۔ العَقْعَق (ح): کوے کی شکل کا ایک پرندہ۔ کوا۔ عام لوگ اسے قَعْق کہتے ہیں۔ اہل عرب اس سے بدفالی لیتے ہیں۔

○ عَقَّ ـُ عَقًّا ہ کو پھاڑنا، دو ٹکڑے کرنا۔ زور سے چیرنا، توڑ دینا، کے ٹکڑے کر دینا۔ عَقَّ ـُ عُقُوقًا والدہ او اباہٗ: لڑکے کا اپنے والد کی نافرمانی کرنا، عَقّ: اپنے والد کا نافرمان، عزت نہ کرنے والا، اپنے فرائض ادا نہ کرنے والا اور سرکش لڑکا۔ عَقِیق: اسم جنس واحد عَقِیقَۃ: جمع عقائق: عَقِیق جمع اَعِقَّۃ: کھڈ، تنگ گھاٹی، گہری گھاٹی۔ عُقُوق: نافرمانی، سرکشی (لڑکے کی) اَعَقّ: زیادہ غیر مودب، زیادہ گستاخ، زیادہ شرارتی، مَا اَعَقَّکَ: تم کتنے بے ادب ہو۔ عَاقّ: نافرمان، بے ادب، گستاخ، فرائض سے کوتاہی کرنے والا اور سرکش (لڑکا)۔

عقب ۱۔ عَقَبَ ـُ عَقْبًا و عُقُوبًا و عاقبۃً الرجُلَ او مکانَ الرجُل: کا جانشین ہونا، کے پیچھے آنا، کہتے ہیں۔ عَقَبَ الشیبُ: سیاہی کے بعد سپیدی آنا۔ عَقَّبَ ہٗ: کے پیچھے آنا، کے پیچھے کھلانا۔ ـــ فی الامر: کی بار بار کوشش کرنا۔ الصلاۃَ: نماز پوری کرنے کے بعد دعا یا کسی سوال کے لئے بیٹھنا۔ الشیبُ: سیاہی کے بعد سپیدی آنا۔ الحاکمُ علی حُکم سلفہ: حاکم کا اپنے پیش رو کے خلاف فیصلہ کرنا۔ عَقَّبَ علی کلامہ تعقیبًا: کی بات پر تبصرہ کرنا، پر تنقید کرنا، پر رائے زنی کرنا، پر نقطہ چینی کرنا، پر اعتراض کرنا، کا تنقیدی نظر سے جائزہ لینا۔ عَاقَبَ مُعَاقَبَۃً ہٗ: کے پیچھے آنا۔ ـــ ہٗ فی الراحلۃ: باری باری سوار ہونا۔ اَعْقَبَ ہٗ: کا جانشین ہونا۔ ـــ ہٗ فی الراحلۃ: باری باری سوار ہونا۔ ـــ فلانٌ: مرنا اور اولاد چھوڑ جانا۔ الرجُلُ: برائی سے خیر کی طرف لوٹ آنا۔ ـ ت الارضُ: زمین کا چرے جانے کے بعد پھر سرسبز ہو جانا۔ کہتے ہیں۔ اُعْقِبَ عِزُّہٗ ذُلًّا: اس کی عزت ذلت سے بدل گئی۔ تعَقَّبَ ہٗ: کا تعاقب کرنا۔ کو تلاش کرنا۔ ـ عن الخبر: پر شک کرنا اور دوبارہ اس کے متعلق سوال کرنا، کے متعلق دوسرے شخص سے، جس سے اس نے پہلے سوال کیا تھا دریافت کرنا یعنی کے متعلق محتاط اطلاعات لینا۔ تعَاقَبَ الرجلانِ او اللیلُ والنہار: دو آدمیوں یا دن رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ الرجلان علی الراحلۃ: دو مردوں کا باری باری سوار ہونا۔ ـــ القومُ فی الشیٔ او الامر: کوئی بات یا کام باری باری کرنا۔ تعاقبوا علی فلان بالضرب: کو مارنے پیٹنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا۔ اِعْتَقَبَ القومُ علیہ: میں تعاون کرنا۔ العَاقِب (فا): نائب۔ اچھا، جانشین۔ العَاقِبَۃ جمع عَوَاقِب: عاقب کا مونث۔ نسل۔ العقب عَقَبَ کا مصدر۔ ہر پیچھے آنے والی چیز۔ ـ العَقِب جمع اَعْقَاب: بیٹا، پوتا، کہتے ہیں۔ جاء عَقِبَہٗ و بعَقِبہٖ وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ اس کا جانشین ہوا۔ العُقْبَۃ جمع عُقَب: باری، نوبت، کہتے ہیں۔ تمّتْ عُقْبَتُکَ: تیری باری پوری ہو گئی۔ بدلا۔ کہتے ہیں: اخذت من اسیری عُقْبَۃً: میں نے اپنے قیدی سے بدلا لے لیا۔ کھانے کے بعد تناول کی جانے والی شیرینی، شوربے کا باقی حصہ جو ہانڈی والے کیلئے چھوڑا جائے۔ رات دن (کیونکہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں)۔ العَقُوب: بھلے کاموں میں پیش رو کا پیرو۔ العَقِیب: پیرو، پیچھے آنے والا، کہتے ہیں۔ ھو عَقِیبُہٗ: وہ اس کے بعد آنے والا ہے۔ المِعقَاب: ایک بار لڑکا اور دوسری بار لڑکی جننے والی عورت۔ المُعَقِّبَات: دن رات کے فرشتے، باری باری پڑھی جانے والی تسبیحین۔

۲۔ عَقَبَ ـُ عَقْبًا ہٗ: کو ایڑ مارنا۔ عُقِبَ عَقْبًا: کی ایڑی میں درد ہونا۔ العَقْب و العَقِب جمع اَعقاب: ایڑی کہتے ہیں۔ رجع علی عَقِبہٖ: وہ جلدی سے اسی راہ سے واپس چلا گیا جس سے آیا تھا۔ وَطِیَٔ عَقِبَہٗ: وہ اس کے نقش قدم پر چلا۔ سَافَرَ علی عَقِب الشہر: اس نے مہینے کے آخر میں سفر کیا۔ العُقْبَۃ من الجمال جمع عُقَب: حسن و جمال کا اثر اور ہیبت، کہتے ہیں ھو عُقْبَۃُ بنی فلان: وہ بنی فلاں کا زندہ بچ رہنے والا آخری شخص ہے۔ العُقْبَۃ من الجمال: حسن و جمال کا اثر اور ہیبت۔

۳۔ عَقَبَ ـُ عَقْبًا القوسَ او السهمَ: کمان یا تیر پر پٹھا لپیٹنا۔ العَقَب جمع اَعْقَاب: وہ پٹھا جس سے تانت بنائی جاتی ہے۔

۴۔ عَقَّبَ علیه: کو بدنام کرنا اور اس کی غلطیاں بیان کرنا۔ عَاقَبَ عِقَابًا و مُعَاقَبَةً بِذَنْبِهِ و علی ذَنْبِهِ: کا اس کی غلطیوں پر مواخذہ کرنا اور اسے سزا دینا۔ اسم عُقُوبَة ہے۔ اَعْقَبَ ہٗ: کو اچھا بدلہ دینا۔ عرب کہتے ہیں۔ اَعْقَبْتُ الرجُلَ: میں نے اس شخص کو اچھا بدلہ دیا۔ عَاقَبْتُهٗ: میں نے اسے برا بدلہ دیا۔ لھذا عَاقِبَة: اچھا بدلہ دینے اور عِقَاب برا بدلہ دینے کے معنی میں آتا ہے۔ الامرُ: کا انجام اچھا ہونا۔ تَعَقَّبَ ہٗ: جرم پر کسی کی گرفت کرنا۔ کے عیوب تلاش کرنا۔ ـــ من امره: پر نادم ہونا۔ اِعْتَقَبَ من کذا ندامةً: کے انجام میں ندامت اٹھانا۔ اِسْتَعْقَبَ ہٗ: کے عیوب ونقائص کو تلاش کرنا۔ العُقْب و العُقُب جمع اَعْقَاب: انجام، نتیجہ۔ العُقْبَی: ہر چیز کا آخر، آخرت، کام کا بدلہ۔ عقبَالك: کا معنی ہے العُقْبَى لك: اس سے لوگ شادی کے موقعہ پر مبارکباد دیتے ہوئے شادی کے اچھے انجام کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں۔ العُقُوبَة و العِقَاب و المُعَاقَبَة: سزا، برائی کا بدلہ۔ العاقِبة جمع عَوَاقِب: ہر چیز کا آخر۔ جزاء، اچھائی کا بدلہ۔ العُقْبَان: عاقبت۔ اَعْقَابُ الاُمُور: معاملات کے نتائج، انجام۔ المُعَاقِب (فا): بدلہ لینے والا۔

۵۔ اِعْتَقَبَ البائعُ السلعةَ: قیمت وصول کرنے تک سامان کو خریدار سے روکے رکھنا۔ الرجُلَ: کو قید کرنا۔

۶۔ العَقَبَة جمع عِقَاب و عَقَبَات: پہاڑ کا دشوار راستہ۔ پہاڑ کی چوٹی پر راستہ۔ العُقَاب (فلک): ایک ستارہ، تالاب کی طرف جانے والی پانی کی نالی۔ ٹیلہ، وہ پتھر جس پر ساقی کھڑا ہوتا ہے۔ جمع عِقْبَان و اَعْقُب و جمع عَقَابِین (ح): ایک شکاری پرندہ۔ العُقَیْب (ح): شکاری پرندہ جو چوہوں اور خرگوشوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کو مُرْزَة بھی کہتے ہیں۔ المُعَقِّب: ماہر ہانکنے والا، ڈرائیور، اوڑھنی، بالی۔ الیَعْقُوب جمع یَعَاقِیب (ح): نرچکور (یا زائد ہے)۔

۷۔ العُقْبُول و العُقْبُولة: عَقَابیل کا مفرد ہے۔ تختی، بیماری یا دشمنی کے بقیہ حصے۔ بیماری کے بعد ہونٹوں پر نکلنے والی پھنسیاں۔

○ عَقَبَ ـُ عَقْبًا ہ/ ھ: کے بعد ہونا، کے پیچھے ہونا یا آنا، کی جگہ کچھ بننا۔ کے بعد آنا، کا جانشین ہونا، ـــ: کے بعد میں آنا، بعد کو ہونا، جاری رہنا۔ عَقَّبَ ہ/ ھ: کے بعد ہونا، پیچھے ہونا یا آنا، کے بعد آنا، کا جانشین ہونا، کا تعاقب کرنا، کا پیچھا کرنا۔ ـــ علی: کو بے نقاب کرنا، کی اصلیت بتانا، کی حقیقت سے آگاہ کرنا، کو مشتبہ بنانا، کا جائزہ لینا، کی تصحیح کرنا، ترمیم کرنا۔ ـــ علی: کا ناقدانہ جائزہ لینا، پر تبصرہ کرنا، رائے زنی کرنا، تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا۔ عَقَّبَ آثارَه: کے نقش قدم پر چلنا۔ عَاقَبَ ہ: کے ساتھ باری باری کچھ کرنا۔ ـــ ہ ب/ علی: کو پر سزا دینا۔ اَعْقَبَ ہ/ ھ: کے بعد ہونا، کے پیچھے ہونا یا آنا، کی جگہ کچھ بننا، کے بعد آنا، کا جانشین ہونا۔ ـــ: بعد میں آنا، بعد کو ہونا، ـــ ہ: کا باپ ہونا۔ ـــ: برائی سے نیکی کی طرف رجوع کرنا، اپنی اصلاح کرنا، انجام بخیر ہونا، کامیاب ہونا۔ تَعَقَّبَ ہ/ ھ: کا تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، تَعَاقَبَ: ایک دوسرے کے بعد آنا، ایک دوسرے کا جانشین ہونا۔ ـــ علی: پر یکے بعد دیگرے لپکنا، جھپٹنا، کی طرف تیزی سے بڑھنا، پے در پے حملے کرنا، پر مسلسل عمل کرنا، لگاتار عمل کرنا، عَقِب و عَقْب جمع اَعْقَاب: ایڑی، کسی چیز کا آخری حصہ، خاتمہ، بعد میں ہونے والا، پوتا، بچہ، بچے، اولاد ونسل، عَقِبَ: کے فورا بعد، کے بعد۔ جاء عَقِبَهٗ یا جاء بعَقِبه یا جاء فی عَقِبه: وہ اس کے ساتھ لگا پیچھے پیچھے آیا۔ علی عَقِبِ: کے فورا بعد۔ رجع (عاد) علی عَقِبِه جمع رجعوا (عادوا) علی اَعْقَابِهِم: وہ جس راہ سے آئے تھے اسی سے واپس ہوگئے۔ ردّه علی عقِبِه جمع ردھم علی اَعْقَابِهِم: اس نے انہیں ادھر دھکیل دیا جدھر سے آئے تھے۔ ارتد علی عَقِبِه جمع ارتدوا علی اعقابهم: وہ پسپا ہوگئے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ رأسًا علی عَقِب: سر پر پاؤں رکھ کر، الٹا، ابتری یا افراتفری میں، بالکل الٹا، اوندھا، درہم برہم، یکسر، بالکل، ظَهْرًا علی عقِب: الٹا، اوندھا، درہم برہم، یکسر، بالکل، ابتری یا افراتفری میں۔ فی اعقاب الشهر: مہینہ کے آخر میں اعقاب الصلوات: فرض نمازوں کے بعد ادا کی جانے والی نفلی نماز۔ فی اعقاب اللیلة: رات ختم ہوتے ہی، سویرے سویرے، تڑکا ہوتے ہی، فجر کے وقت۔ عُقْب جمع اعقاب: خاتمہ، آخر، نتیجہ، اثر، مسئلہ، آرام، بقیہ، بچا کھچا، باقی، سرا، کندا، بچا ہوا ٹکڑا، کا نصف ثانی، مُثَنّی۔ عَقَبَة جمع عِقَاب: ڈھلان سڑک یا پگڈنڈی، کھڑی ڈھلان، درہ، پہاڑی سڑک۔ العَقَبة یا قَلعةُ العَقَبة: عقبہ (جنوب غربی اردن کی بندرگاہ) جمع عَقَبات و عِقَاب: رکاوٹ، مشکل۔ وقَفَ عَقَبَةً دُونَ: کی راہ میں حائل ہونا، روڑا اٹکانا۔ عَقِب: بعد میں آنے والا، اگلا۔ عقیب ذلك: بعد ازاں، بعد میں، پھر۔ عُقَاب: (عموما مونث) جمع اَعْقُب و عِقْبَان: چیل Eagle عقاب، شاہین۔ عُقَیْب: ایک چھوٹی چیل، چھوٹا عقاب، شاہین۔ عُقُوبَة جمع عُقُوبات: سزا، جرمانہ جمع عقوبات: تعزیری اقدامات، کارروائیاں۔ عقوبات اقتصادیه: اقتصادی پابندیاں۔ قانونُ العقوبات: تعزیری ضابطہ (قانون)۔ عُقُوبی: تعزیری۔ عُقْبَی: انجام، نتیجہ، اثر۔ یَعْقُوب: حضرت یعقوب علیہ السلام جمع یَعَاقِیب: پہاڑی زنبیر۔ لِحاجةٍ فی نفسِ یعقوب: کسی غیر معلوم وجہ سے، خفیہ محرکات سے۔ تعقیب جمع تعقیبات: تعاقب، تحقیق، تبصرہ، تنقید، (کسی حکم کے خلاف) اپیل۔ دائرة التعقیب: نظر ثانی یا اپیل کورٹ (عدالت) مُعَاقَبَة: سزا دینا، سزا جمع مُعَاقَبَات: (سیاسی) پابندیاں، عِقَاب: سزا دینا، سزا، جرمانہ، عِقَابی: تعزیری۔ عُقَابِی: چیل، شاہین، عقاب کا یا اس سے متعلق۔ تَعَقُّب جمع تعقبات: پیچھا کرنا، تعاقب، تحقیق۔ تَعَاقُب: کے بعد ہونا، آنا، ایک دوسرے کے بعد آنا، جانشینی، سلسلہ، علی تعاقبِ العُصُور: صدیوں کے دوران میں۔ علی العَاقِب: لگاتار، مسلسل، پے در پے، عَاقِبَة جمع عَوَاقِب: آخر، نتیجہ، مسئلہ، اثر۔ سلیم العاقبة: ہلکی (بیماری)۔ مُعَاقِب: سزا دینے والا، یکے بعد دیگرے، باری باری، مُتَعَاقِب: لگاتار، پے در پے، مسلسل، متواتر، غیر منقطع

عقد: ا عَقَدَ ـِ عَقْدًا الحبلَ: رسی کو گرہ لگانا۔ البیعَ او الیمین: بیع یا قسم کو پختہ کرنا۔ الخیطَ: دھاگے میں گرہ لگانا۔ ـــ البنّاءُ: معمار کا محراب بنانا۔ البناءَ بالجِصّ: عمارت کو چونے سے مضبوط کرنا۔ ـــ ہ علی الشیء: سے پر معاہدہ کرنا۔ ـــ له الشیءَ: کو کی ضمانت دینا۔ کہتے ہیں۔ عَقَدَ ناصِیَتَهٗ: وہ غضبناک ہوا اور برائی کیلئے تیار ہوگیا۔ عَقَدَ عُنُقَهٗ الیه: کے پاس پناہ لینا۔ کہتے ہیں۔ عقد له الرئاسةَ فی قومه: کو قوم کا رئیس بنا دینا۔ عقد له علی الجیش: کو لشکر کا سردار بنا دینا۔ عَقْدُ الاَلْوِیَةِ لامراء البحر علی سفنهم: امراء بحر کے جہازوں کو سمندر میں اتارنا جھنڈے لگا کر۔ کہتے ہیں۔ طُرّادٌ معقودُ اللواء للامیرال فلان: فلاں امیر البحر کا (پرچمی) جنگی جہاز۔

عَقِدَ ـَ عَقَدًا: گرہ دار زبان والا ہونا۔ اللسانُ: زبان کا رکنا صفت اَعْقَد و عَقِد عَقَّدَ البیتَ: گھر کے (لئے) محراب بنانا۔ الیمین: قسم کو پختہ کرنا۔ الحبلَ:

رسی میں خوب گرہ لگانا۔ ـــ الکلامَ: بات کو مبہم کرنا۔
عَاقَدَ مُعَاقَدَۃً: سے معاہدہ کرنا۔ تَعَقَّدَ
السحابُ: بادل کا محراب کی مانند ہونا۔ ـــ الامرُ:
دشوار ہونا۔ الاِخاءُ: بھائی چارہ کا مضبوط ہونا۔ تَعَاقَدَ
القومُ: ایک دوسرے کیساتھ معاہدہ کرنا۔ اِعْتَقَدَ
الاخاءُ بینهما: دونوں کے درمیان سچی محبت اور دوستی
ہونا۔ ـــ الشیَٔ: کو باندھنا۔ ـــ الدرَّ ونحوہ: موتی
وغیرہ کے ہار بنانا۔ ـــ الأمرَ: کی تصدیق کرنا، پر
نہایت پختہ یقین رکھنا، کو دین بنانا۔ اِنْعَقَدَ: بندھنا،
گرہ لگنا۔ ـــ الامرُ لفلان: کیلئے خالص ہونا۔ العَقد
(مص) جمع اَعْقَاد و عُقُود: محراب العِقْدُ جمع
عُقُود: ہار۔ العُقْدَۃ جمع عُقَد: شہر کی حکومت،
حاکموں کی بیعت، بہت درختوں اور گھاس والی جگہ،
گرہ۔ ـــ من کل شیٍٔ: ہر شے کی ناگزیریت،
مضبوطی اور تصدیق کہتے ہیں: تحلَّلت عُقْدَتُہُ: اس
کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ العَقَدَۃ: زبان کی جڑ۔ العاقِد جمع
عَقَدَۃ فا: کہتے ہیں، جاء عاقِدًا عُنُقَہُ: وہ غرور سے
گردن مروڑتا ہوا آیا۔ العاقِلۃ جمع عَوَاقِد و عاقدات:
عاقد کا مؤنث۔ العَقَّاد: بہت عقد کرنے والا۔ دھاگے
اور بٹن بنانے اور بیچنے والا۔ العِقَادۃ: بٹن اور دھاگے
بنانے اور بیچنے کا پیشہ۔ العَقِید: معاہدہ کرنے والا۔
عَقِیدُ العسکر (اع) لفٹنٹ کرنل (عراق) کرنل
(یواےآر) جمع عُقَدَاء: کہتے ہیں۔ فلان عَقِیدُ
الکَرَمِ او اللُؤم: فلاں شخص طبعاً کریم یا لئیم ہے۔
عَقِیدَکَ اللّٰہُ: میں تم سے اللہ کا واسطہ دیکر التجا کرتا
ہوں۔ العَقِیدَۃ جمع عَقَائِد: جس پر پختہ یقین کیا
جائے، جس کو انسان دین بنائے اور اس پر اعتقاد
رکھے۔ عقیدہ، اعتقاد۔ الاَعْقَدم عَقْدَاء جمع عُقْد:
وہ شخص جس کی زبان میں گرہ ہو۔ کنایۃً بھیڑیا جس کی
دم مڑی ہوئی ہو۔ ہکلا۔ المَعْقِد جمع مَعَاقِد: گرہ
باندھنے کی جگہ، جوڑ کہتے ہیں۔ ھو منی مَعْقِدَ الازار: وہ
مرتبہ کے لحاظ سے مجھ سے قریب ہے۔ المِعْقَاد:
بچوں کے گلے میں ڈالنے کا دھاگا جس میں بلور کے
منکے ہوتے ہیں۔ المَعَاقِد: معقد کی جمع۔ وہ منزلیں
جہاں بار بار لوٹ کر آئیں۔ المُعْتَقَد: اعتقاد۔

۲- عَقَدَ ـِ عَقْدًا الحاسبُ: حساب لگانا۔ العُقُود من
الاعداد: دہائیاں جیسے دس، بیس، تیس، ننانوے۔ العُقْدَۃ:
رفتار کی اکائی جو ۱۸۵۳ میٹر فی گھنٹہ کے برابر ہے۔
بحری میل، ٹھہری ہوئی موجوں کے مظہر میں حرکت نہ
کرنے والا نقطہ۔

۳- عَقَدَ ـِ عَقْدًا الزهرُ: پھول کے اجزاء کا جمع ہو کر
پھل بن جانا صفت عَاقِد۔ ـ العسلُ ونحوہ: شہد
وغیرہ کا گاڑھا ہونا۔ عَقَّدَ و اَعْقَدَ الدِبسَ و
نحوہ: شیرہ وغیرہ کو جوش دے کر گاڑھا کرنا۔ تَعَقَّدَ
الدِبسُ: شیرہ کا گاڑھا ہونا۔ ـــ الرملُ: ریت کا تہ
بتہ ہونا۔ اِنْعَقَدَ الدبسُ: شیرہ کا گاڑھا ہونا۔ ـــ
الزهرُ: پھول کے اجزاء کا سمٹ کر پھل بن جانا۔
اِعْتَقَدَ الشیُٔ: سخت ہونا۔ اعتقد النوی: گٹھلی
سخت ہوگئی۔ العِقْد و العَقَد (واحد عَقِدۃ و عَقَدَۃ)
ریت کا تودہ۔ العَقِید من الدبس: گاڑھا شیرا۔
العُنْقُود و العِنْقَاد (ن): گچھا۔

۴- اِعْتَقَدَ المالَ: مال جمع کرنا۔ العُقْدَۃ جمع عُقَد:
جائیداد، اتنی مقدار، جو آدمی کو کافی ہو۔

۵- العاقِدات: جادوگرنیاں۔ المُعَقِّد: جادوگر۔

○ عَقَدَ ـِ عَقْدًا ہ: کو گرہ لگانا، کو گرہ دے کر گانٹھنا، جوڑنا،
باندھنا، اکٹھا کرنا، (اپنے ہاتھ وغیرہ) باندھنا،
(بھویں وغیرہ) سکیڑنا۔ ـــ ہ ب: پر اپنی آنکھیں
گاڑنا، جمانا۔ ـــ ہ: (عمارت میں) محراب بنانا۔ ـــ
ہ: (اجلاس یا اجتماع) منعقد کرنا، بلانا، طلب کرنا۔ ـــ
ہ: ٹھیکہ یا معاہدہ طے کرنا (معاملہ، کاروبار، فروخت)
عمل میں لانا، (قرضہ) لینا۔ عَقَدَ اَملاً علی: سے
امید وابستہ کرنا۔ عَقَدَ جَبْهَتَہُ: اپنی بھویں سکیڑنا،
تیوری چڑھانا۔ عَقَدَ محادثۃً: بات چیت، گفتگو
شروع کرنا۔ عُقِدَ خِطبتُها علی: (لڑکی) کی منگنی
سے ہوگئی۔ عقد الخِنصرَ (الخناصر) علی: کسی
چیز کو سب پر فوقیت دینا۔ عَقَدَ زَوَاجًا: شادی کرنا،
عَقَدَ العزم (العزیمۃ) علی: کا فیصلہ کرنا، ارادہ
کرنا، کا پختہ عزم کئے ہونا۔ عَقَدَ لسانَہ: کو خاموش
کرنا۔ عَقَد لواء الشیٔ: کی بنیاد رکھنا، کو شروع کرنا،
کو وجود میں لانا، کو سمندر میں اتارنا، ہٹانا، تخلیق کرنا، کو
روشن کرنا، جلانا، آگ لگانا۔ السفینۃ المعقود لها
لواء القیادۃ: پرچمی جہاز۔ البارجۃ المعقود لواء
ها للامیرال: امیر البحر کا (پرچمی) جہاز۔ عَقَد
ناصیتہ بمعنی عقد جبهتہ۔ عَقَدَ نِطَاقًا حولَہ:
کے گرد (سپاہیوں کا) گھیرا ڈالنا۔ عَقَدَ النیۃ علی: کا
عزم صمیم کرنا، کا ارادہ کرنا، کا فیصلہ کرنا۔ عُقِدَ لَہُ لواء
المجد (النصر): اس کے سر پر شہرت (یا فتح و نصرت
کا) سہرا باندھا گیا۔ عَقَد علی المرأۃ: ایک عورت
سے شادی کرنا۔ عَقَّدَ ہ: کو مضبوطی سے گرہ لگانا،
گانٹھنا، باندھنا، جوڑنا۔ ـــ ہ: (بادلوں کو) تہ بتہ کرنا، کو
اکٹھا کرنا۔ ـــ ہ: (بھاپ، بخارات وغیرہ کا) گچھا
بنانا۔ ـــ ہ: کو پیچیدہ کرنا، مشکل بنانا، الجھا ہوا کرنا۔

عَقَّدَ و اَعْقَدَ ہ: کو گاڑھا کرنا، منجمد کرنا۔ تَعَقَّدَ: کو گرہ
لگنا، گانٹھا جانا، بندھنا، جڑنا، پیچیدہ ہونا، گاڑھا ہونا،
منجمد ہونا، (بادلوں کا) اکٹھا ہونا۔ تعَقَّد لسانُہ: بڑی
مشکل سے اظہار خیال کرسکنا، سخت کوشش کر کے بولنا،
بول نہ سکنا، زبان میں تالا سا لگا ہونا۔ تَعَاقَدَ: باہم
گانٹھا ہوا ہونا، باہم جڑا ہوا ہونا، باہم بندھا ہوا ہونا،
باہم مربوط ہونا، ٹھیکہ لینا، معاہدہ کرنا۔ ـــ علی: پر،
کے بارے میں اتفاق کرنا۔ اِنْعَقَدَ: باہم گانٹھا ہوا
ہونا، گرہ لگا، گرہوں سے بندھا ہوا ہونا، الجھا اور پھنسا
ہوا ہونا، بھنووں کا سکڑنا (زبان کا) رکنا، گاڑھا ہونا،
منجمد ہونا، (ٹھیکہ) طے پانا، (بیع) کا عمل میں آنا
(کانفرنس کمیٹی وغیرہ کا) منعقد ہونا، جمع ہونا۔
الاجماع مُنعَقِد علی أن: عام یقین ہے کہ۔ لم
ینعقد لہ زهرٌ و لاثمر: پھول اور پھل کے بغیر
رہنا، کسی اثر یا نتیجہ کے بغیر ہونا۔ اِعْتَقَدَ ہ ب: میں
کا پختہ یقین رکھنا عَقْد جمع عقود: ٹھیکہ، معاہدہ،
انتظام، قانونی عمل، قانونی کاروبار، دستاویز، تحریر،
محراب، محراب دار چھت، قوسی چھت، دس کا مجموعہ
(دہائی) دس سال کی مدت، دہ سالہ مدت، عقدٌ
الْفی: ہزار سال، ہزار سالہ مدت (Millennium)
عَقْدُ الزواج: شادی کرنا، شادی، نکاح نامہ، عقد
القران: شادی کرنا، شادی۔ عقد المِلکیۃ: دستاویز
ملکیت (Title dead)۔ اِنْفَرَطَ عقدُهم: وہ
ٹوٹ گئے، انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ عِقد جمع
عُقُود: پھولوں کا گجرا، ہار، چمپاکلی۔ واسطۃُ العقد:
مرکز، نقطہ ماسکہ (focus)، روشن پہلو، اہم کشش،
بڑی چیز، اصل بات Piece de resistance
عُقْدَۃ جمع عُقَد: گرہ، گانٹھ، بحری میل، اینچ، جوڑ،
گوندھ کر یا ایک دوسرے پر رکھ کر لگایا ہوا جوڑ، گومڑی،
سوجن، ورم، آماس، گومڑی، ڈلی، گولی، ابھار،
شاخسانہ (Outgrowth) ٹھیکہ، معاہدہ، اقرار،
عہد، عہد نامہ، قول و قرار، عہد و پیمان، مسئلہ، مشکل،
معما، پہیلی، نفسیاتی الجھن، ذہنی الجھاؤ، عَقَّاد:
ڈوریاں، طنابیں، پراندے پھندنے، جھالریں،
گوٹیں، لیس، فیتہ کناری وغیرہ بنانے اور فروخت
کرنے والا، عِقَادہ: یہ چیزیں بنا کر فروخت کرنے
کا پیشہ۔ عقید: ٹھیکہ لینے والا فریق، ٹھیکیدار، لیفٹیننٹ
کرنل (عراق میں) کرنل (متحدہ عرب جمہوریہ میں)
عقیدۃ خرافیۃ: ضعیف الاعتقادی، اوہام پرستی،
توہم، فی عَقِیدتی: میرے پختہ یقین کے مطابق،
جیسا کہ میں یقین رکھتا ہوں۔ عَقَائد: نظریاتی

نظام کے متعلق۔ مَعْقَدُ اماله: وہ مقصد جس سے وہ اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ لا یاخذ الکری بمعقد جفنه: کسی نیند نے اس کے پپوٹے بند نہیں کیے۔ اِعْتِقادی: اذعانپسند (Dogmatic) جمع اِعْتِقادِیون: اذعانپسند Dogmatists المذهب الاعتقادی: اذعانپسندی (Dogmatism) معقود اللسان: جس کی زبان کو تالا لگا ہوا ہو۔ بول نہ سکنے والا۔ کان الامل معقودا ان: امید تھی کہ۔ مُعاقِد: ٹھیکہ لینے والا فریق ٹھیکیدار۔ المتعاقدان: دونوں فریق (ٹھیکہ دینے اور لینے والے)۔ المُعْتَقَد ان: یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ۔ مُعْتَقَد: یقین کیا گیا جمع معتقدات: ایمان کی شق، ایمان کا اصول، عقیدہ، اصول، ایمان، مذہب، مسلک، پختہ یقین، اعتقاد رائے، خیال۔

عقر: ۱- عَقَرَ ـِ عَقْرًا ہٗ: کو زخمی کرنا، ذبح کرنا۔ ـ الابلَ: اونٹوں کی کونچیں کاٹ ڈالنا۔ ـ بالصید: شکار کے پیچھے لگنا، پر حملہ کرنا۔ عَقَّرَ الابلَ: اونٹوں کو بہت زخمی کرنا۔ عاقَرَ مُعاقَرَۃً ہٗ: پر اونٹ ذبح کرنے میں فخر کرنا۔ تَعَقَّرَ و اِعْتَقَرَ ظهرُ الدابة من الرحل او السرج: جانور کی پیٹھ کا کجاوے یا زین سے زخمی ہو جانا۔ تَعاقَرَ الراعیان: دو چرواہوں کا اونٹوں کے ذبح کرنے میں مقابلہ کرنا۔ اِنْعَقَرَ ظهرُ الدابة من الرحل او السرج: کجاوے یا زین سے جانور کی پیٹھ کا زخمی ہو جانا۔ ـ ت قوائم البعیر: اونٹ کی کونچیں قطع ہو جانا، کٹ جانا۔ العاقور: پیٹھ کو زخمی کر دینے والی زین۔ العُقَر: جانور کو تھکا کر زخمی کرنے والا۔ العُقَرَۃ بمعنی عُقَر و عاقور۔ العَقّار جمع عَقاقِیر: بہت زخمی کرنے والا۔ العِقِّیر: مبالغہ کا صیغہ۔ العَقُور جمع عُقُر: کاٹنے والا جانور وغیرہ۔ العَقِیر جمع عَقْرَیٰ: زخمی۔ العَقِیرَۃ: زخمی شکار وغیرہ، کٹی ہوئی پنڈلی۔ نخلةٌ عَقِیرۃٌ: کٹے ہوئے سر کا کھجور کا درخت۔ گانے، رونے یا پڑھنے والے کی آواز، کہتے ہیں: رَفَعَ عَقِیرتَہ: اس نے اپنی آواز بلند کی۔ المِعْقَر: جانور کو تھکا تھکا کر زخمی کرنے والا۔ ـــ والمِعْقار و المُعْقِر من السروج: پیٹھ زخمی کرنے والی زین۔

۲- عَقَرَ ـِ عَقْرًا بہ: کو چلنے سے روک دینا۔ ـ عَقْرًا و عُقْرًا و عُقارًا ت المرأة او الناقةُ: عورت یا اونٹنی کا بانجھ ہونا۔ صفت عاقر: اسی سے ضرب المثل ہے۔ الحرکةُ وَلُودٌ والسکونُ عاقِرٌ: حرکت حاملہ اور سکون بانجھ ہے۔ ـ عَقُرَ ـُ عُقْرًا و عَقارَۃً و عِقارۃً ت المرأة او الناقةُ: عورت یا اونٹنی کا بانجھ ہونا۔ ـ عُقْرًا الامرُ: بے نتیجہ ہونا۔ عُقِرَت المرأة او الناقةُ: عورت یا اونٹنی کا بانجھ ہونا۔ اَعْقَرَ اللّٰه المرأةَ: اللہ کا کسی عورت کو بانجھ بنانا۔ العُقْر (مص) بے اولاد۔ بیضةُ العُقْر: مرغی کا پہلا انڈہ۔ العُقْرَۃ والعُقْرَۃ والعَقارۃ: عدم حمل، بانجھ پن کہتے ہیں: حملت بعد عُقْرۃ: وہ بانجھ پن یا عدم حمل کے بعد حاملہ ہوئی۔ امرأةٌ عُقَرۃٌ: رحم کی بیماری والی عورت۔ العاقر جمع عُقَّر و عَواقِر: بانجھ عورت، رَجُلٌ عاقِر: بے اولاد مرد۔ رجلٌ عَقِیر: بے اولاد مرد۔

۳- عَقِرَ ـَ عَقَرًا الرجلُ: دہشت زدہ ہونا۔ اَعْقَرَہٗ: کو دہشت زدہ کرنا۔ العَقِیر جمع عَقْرَیٰ: دہشت زدہ۔

۴- عاقَرَ مُعاقَرَۃً الشیءَ: کو لازم پکڑنا، کا عادی ہونا۔ ـ الخمرَ: شراب پینے میں مداومت کرنا۔ تَعَقَّرَ الغیثُ: لگاتار بارش برسانا۔ العُقار: شراب۔

۵- عاقَرَ مُعاقَرَۃً ہٗ: سے نفرت کرنا، کو گالی دینا، کی ہجو کرنا۔

۶- تَعَقَّرَ الرجلُ: زیادہ جائیداد والا ہونا۔ ـ النباتُ: نباتات کا لمبی ہونا۔ العَقْر: گھر کا درمیانی حصہ، محلّہ، اونچی عمارت، مکان۔ العُقْر جمع اَعْقار: محلّہ، گھر کا درمیانی حصہ، گھر کی سب سے خوبصورت جگہ۔ بہترین گھاس، قصیدے کا بہترین شعر، محل، جہیز۔ العَقار جمع عَقارات: گھر کا سامان، زمین (جائیداد) ہر وہ چیز جس کی اصل اور استحکام ہو جیسے، زمین، گھر۔ العُقار: گھر کا سامان، بہترین مال اور گھاس۔ العَقّار جمع عَقاقِیر: درخت، العُقْرِیٰ: زمین (جائیداد)۔ العِقْیِر: درخت۔ المُعْقِر: بہت جائیداد والا۔

۷- تَعَقَّرَ شحمُ الناقة: اونٹنی کی چربی کا گھٹا ہوا ہونا۔

۸- العَقْر: دو چیزوں کے درمیان کی کشادگی۔ العُقْر جمع اَعْقار: تالاب کا پچھلا حصہ یا تالاب کا وہ مقام جہاں پینے والا کھڑا ہو۔ ـ و العُقْر: بڑی آگ۔ العَقار جمع عَقارات: لال رنگ۔ العَقّار جمع عَقاقِیر: جڑی بوٹیاں، مطلق دوا۔ الاَعْقَر م عَقْراء جمع عُقْر: وہ اونٹ جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں۔ العَقْراء: اَعْقَر کا مونث۔ ریت کا ٹیلہ۔ ارضٌ مَعْقَرۃ: بہت بچھوؤں والی سرزمین۔

۹- العَقْرَب جمع عَقارِب (ح): بچھو (مذکر و مونث) اکثر مونث آتا ہے۔ کنیت ام عِرِیْط و ام ساھرۃ ہے۔ مذکر کو عُقْرُبان بھی کہتے ہیں۔ کبھی مادہ کو عَقْربہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ العقرب: آسمان کا ایک برج۔ عقربُ الساعة: گھڑی کی سوئی۔ عقربُ الصُّدغ: گھنگھریالے بال جو کنپٹیوں پر عورتیں لٹکاتی ہیں۔ العقارب: سختیاں، چغلیاں، کہتے ہیں: دَبَّتْ عقاربُہٗ ودبت منه عقاربُ السعاية و انه لتدبُّ عقاربُہٗ: وہ لوگوں کی بے آبروئی کرتا ہے۔ عیشٌ ذو عَقارِب: سختی اور تنگی کی زندگی۔ عقاربُ الشتاء: ٹھنڈ کی شدت۔ العَقْرَباء (ح): مادہ بچھو۔ المُعَقْرَب: موڑا ہوا، ٹیڑھا گھٹا ہوا، مضبوط جسم، کامل مددگار۔ ارضٌ مُعَقْرَبة: بہت بچھوؤں والی زمین۔

عَقَرَ ـِ عَقْرًا ہ/ہ: کو زخمی کرنا۔ عَقُرَ ـُ و عَقَرَ ـِ عُقْرًا و عَقْرًا و عَقارۃً: بنجر ہونا، بانجھ ہونا، بے اولاد ہونا۔ عاقَرَہٗ: کا عادی ہونا۔ اَعْقَرَہٗ: کا ہوش اڑا دینا، کو حواس باختہ کرنا، کو مدہوش کرنا۔ عُقْر و عَقْر: بنجر پن، بانجھپن، درمیان، مرکز۔ فی عقر الدار: گھر کے ہی اندر۔ فی عقر دارہ: اس کے اپنے گھر میں۔ فی عقر دیارهم: ملک کے اندر، ان کے اپنے ملک میں، ان کے اپنے میدان میں۔ عُقْر: لونڈی سے ناجائز جنسی تعلق کا ہرجانہ، بے اولاد مرد۔ عَقار جمع عَقارات: غیر منقولہ جائیداد، زرعی جائیداد۔ عُقار: بچا کھچا، بقیہ۔ عَقاری: غیر منقولہ جائیداد کا یا سے متعلق، غیر منقولہ جائیداد یا زرعی جائیداد پر مشتمل۔ بنك عقاری: غیر منقولہ جائیداد کا بینک۔ زرعی زمین رہن رکھنے والا بینک۔ رهن عقاری: غیر منقولہ جائیداد یا زرعی جائیداد کا رہن۔ زرعی ضمانت۔ القسم العقاری: زرعی جائیداد کا بندوبست۔ مِلك عقاری: زرعی جائیداد۔ عَقُور: بھوکا، لالچی کاٹنے والا (جانور)۔ عَقّار جمع عَقاقِیر: دواء، کھانے یا لگانے کی دوا، علاج۔ عَقارۃ: بنجر پن، بانجھ پن۔ عَقِیرۃ: آواز۔ عاقِر (م): بنجر، بانجھ (عورت)۔ عَقْرب جمع عَقارِب: بچھو، ڈنک، نیش، کانٹا، خار، (گھڑی یا گھنٹے کی) سوئی، بالوں کی لٹ، زلف، گیسو، گھنگھریالے بال، زلف پر شکن، گیسوئے تابدار، آسمان کا ایک برج (العقرب)۔ مُعَقْرَب: ٹیڑھا، پیچ دار، موڑ والا، مڑا ہوا، بل دار، گھنگھریالا۔

عقش: عَقَشَ ـُ عَقْشًا العودَ: لکڑی کو موڑنا۔ ـ المالَ: مال کو جمع کرنا۔

عقص: ۱- عَقَصَ ـِ عَقْصًا الشعرَ: بالوں کی چوٹی بنانا یا ان کو گوندھنا۔ ـ المرأةُ شعرَها: بالوں کا جوڑا بنانا۔ عَقِصَ ـَ عَقَصًا التیسُ: مینڈھے کا پیچھے کو مڑے ہوئے سینگوں والا ہونا۔ ـ الرجلُ: آدمی کا مڑی ہوئی انگلی والا ہونا۔ العَقِص: جمع شدہ ریت جس میں راستہ

نہ ہو۔ العُقَصَۃ من القرن وغیرہ جمع عُقَص: سینگ وغیرہ کی گرہ۔ العِقْصَہ جمع عِقَص و عِقَاص و العَقِیْصَہ جمع عَقَائِص و عِقاص: بالوں کی چوٹی۔ العِقَاص جمع عُقُص: موباف۔ الأَعْقَص م عَقْصاء جمع عُقْص مڑی ہوئی انگلیوں والا، جس کے دو دانت اندر کو ہوں۔۔۔ من التیوس: مینڈھا جس کے سینگ پیچھے کو مڑے ہوئے ہوں۔ المِعْقَص جمع مَعاقِص: ٹیڑھا تیر۔ المِعْقَاص: مڑے ہوئے سینگ کی بھیڑ، بکری۔

۲۔ عَقِص ۔ عَقَصًا الرجلُ: بخیل ہونا۔ العَقِیص: بخیل۔ الأَعْقَص م عَقْصاء جمع عُقْص: بخیل۔

۳۔ عَقِصَ ۔ عَقَصًا الرجلُ: بدخلق ہونا۔ العَقِص: بدخلق۔

○ عَقَصَ ۔ِ عَقْصًا ہ: بالوں کو گوندھنا، بالوں کی چوٹی (چٹیا) کرنا۔ عَقِیصَۃ جمع: عَقَائِص و عِقاص: بالوں کی چوٹی (چٹیا) گندھے ہوئے بال، بالوں کی لٹ، زلف، گیسو۔

عقف: ۱۔ عَقَفَ ۔ِ عَقْفًا و عَقَّفَ العُودَ ونحوہ: لکڑی کو کنارے سے موڑنا اور ٹیڑھا کرنا صفت مفعولی۔ اَعْقَف و مَعْقُوف۔ تَعَقَّفَ و اِنْعَقَفَ العودُ ونحوہُ: لکڑی وغیرہ کا مڑنا اور ٹیڑھا ہونا، العَقْفَاء اَعقف کا مونث جمع عُقْف: لوہا وغیرہ جس کا کنارہ ٹیڑھا اور مڑا ہوا ہو، مڑے ہوئے سینگوں والی بکری۔۔۔ والعُقَیفاء (ن): ایک گھاس جسے کھانے سے بکریاں مرجاتی ہیں۔ العُقَاف: ایک بیماری جس سے بکریوں کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ ایسی بکری کو عاقف کہتے ہیں۔ جمع عَوَاقِف ہے۔ العُقَّافَۃ: لکڑی جس کی ایک جانب ٹیڑھی ہو۔ العَقُوف من ضروع البقر: گائے کا تھن جس سے دھار دوہتے وقت سیدھی نہ نکلے۔ شَوْکَۃ عَقِیْفَۃ: مڑا ہوا کانٹا۔ المَعْتُوف: جسے ٹانگیں ٹیڑھی کرنے والی بیماری ہو شَیْخٌ مَعْقُوف: ٹیڑھی کمر والا بوڑھا۔

○ عَقْعَق جمع عَقَاعِق: چتلا کوا (magpie)

○ عَقَفَ ۔ِ عَقْفًا ہ: کو موڑنا، ٹیڑھا کرنا، عَقَّفَ ہ: بمعنی عَقَفَ ۔ عُقْفَۃ جمع عُقَفات: پھندا، چھلا، کاج۔ اَعْقَف م عَقْفا: مڑا ہوا، ٹیڑھا، مَعْقِف: سیدھا قوس Square bracket۔ مَعْقُوف: ٹیڑھا، مڑا ہوا، جھکا ہوا، سروں کے نزدیک جھکا ہوا، سائکل کے ہینڈل کی شکل کی مونچھ، دوہرا۔ معقوفان: سیدھی قوسیں Square brackets۔ مُنْعَقِف: سیدھا قوس Square bracket۔ بین منعقفین: سیدھے قوسین میں۔

عقل: ۱۔ عَقَلَ ۔ُ عَقْلاً البعیرَ: اونٹ کی ٹانگ اور ران ملا کر رسی سے باندھنا۔۔۔ الدواءُ بطنَہ: دواء کا کسی کو قبض کر دینا۔۔۔ ۔ِ عَقْلاً و عُقُولاً المصارعُ خصمَہُ: کشتی لڑنے والے کا اپنے مدمقابل کو ٹانگ میں ٹانگ ڈال کر گرا دینا۔ عَقْلاً و معقولاً الغلامُ: لڑکے کا سمجھدار ہونا، دانا ہونا، کہتے ہیں۔ ما فعلت مُنذ عَقَلْتُ: میں نے یہ کام اس وقت سے نہیں کیا جب مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ فلانٌ بعد الصبا: اپنی غلطی کو سمجھ لینا۔۔۔ عَقْلاً الشئَ: کو سمجھنا، پر غور و فکر کرنا، صفت عَاقِل جمع عاقلون و عُقَلاء و عُقَّال مونث عَاقِلَۃ جمع عاقِلات و عَوَاقل۔ عَقِلَ ۔ عَقَلاً البعیرُ: اونٹ کا ٹیڑھی ٹانگوں والا ہونا صفت اعقل م عَقْلاء جمع عُقْل۔ عَقَّلَ البعیرَ: اونٹ کی ٹانگ اور ران ملا کر باندھنا۔ الغلامُ: لڑکے کا عقل مند ہونا۔۔۔ الغلامَ: لڑکے کو عقلمند بنانا۔ الرجُلَ عن حاجتہ: آدمی کو اس کی ضرورت کے حصول سے روک دینا۔ عَاقَلَ مُعَاقَلَۃً ہٗ فعَقَلَہٗ: کا سمجھ بوجھ میں مقابلہ کرنا اور اس پر غالب آنا۔ اَعْقَلَ ہٗ: کو عقل مند پانا۔ تَعَقَّلَ ہٗ: کو روکنا۔۔۔ الرِجْلَ: پاؤں موڑ کر سرین پر رکھنا۔۔۔ الرحْلَ او السرجَ: کجاوہ یا زین پر پاؤں موڑ کر رکھنا۔۔۔ الغلامُ: لڑکے کا سمجھدار ہونا۔ عقلمند بننا۔ تَعَاقَلَ: اپنے آپ کو عقلمند ظاہر کرنا۔ اِعْتَقَلَ ہٗ: کو قید کرنا، کوئی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کر پچھاڑ دینا۔۔۔ الرُمْحَ: نیزہ کو رکاب اور پنڈلی کے درمیان رکھنا۔۔۔ البعیرَ: اونٹ کی ٹانگ اور ران ملا کر باندھنا۔۔۔ الرَحْلَ او السرجَ: کجاوہ یا زین پر پاؤں موڑ کر رکھنا۔۔۔ الرِجْلَ: پاؤں موڑ کر سرین پر رکھنا۔ الشاۃَ: بکری کی ٹانگ کو اپنی ٹانگ اور ران کے درمیان دبا کر دوہنا۔۔۔ الدواءُ بطنَہٗ: دوا کا کسی کو قبض کر دینا۔ اُعْتُقِلَ لسانُہٗ: زبان کا بند ہو جانا۔ بول نہ سکنا۔ العَقْل (مص) جمع عُقُول: روحانی روشنی جس سے غیر محسوسات کا ادراک ہوتا ہے۔ دل۔ العَقْلِیّ: عقل سے منسوب، جس میں باطنی حس کو دخل نہ ہو، عقلیت کا دعویدار۔ العَقْلِیَّۃ: وحی کے بغیر عقل کو کافی سمجھنے والوں کا مذہب۔ العُقْلَۃ جمع عُقَل: جس سے باندھا جائے۔ العَقَلَۃ: زبان کی بندش۔ العِقَال جمع عُقُل: رسی جس سے اونٹ کے زانوں کو باندھا جاتا ہے۔ سر پر باندھنے کی رسی۔ العُقَّال (طب): جانوروں کے پاؤں کی بیماری۔ العَاقِل (فا) جمع عُقَلاء و عاقِلون و عُقَّال: سمجھدار دانا، عورت کو بھی عاقل کہتے ہیں۔۔۔ جمع عُقَّال عند الدروز: دروزیوں کے نزدیک، دین کے اسرار کا واقف، اس کے مقابل میں ان کے نزدیک جاہل ہوتا ہے۔ العَاقِلَۃ: عاقل کی مونث۔ قوت فہم عَاقِلَۃُ الرجُلِ: پدری رشتہ دار۔ العَقُول: قابض دواء۔ امور کو سمجھنے والا۔ العَقِیل: معقول۔ العَقِیْلَۃ جمع عَقَائِل من النساء: شریف پردہ دار عورت۔۔۔ من الابل: عمدہ اونٹ۔۔۔ من القوم: سردار۔۔۔ من کل شئ: ہر چیز کا عمدہ ترین ٹکڑا۔ عَقِیْلَۃُ البحر: موتی۔ المَعْقِل جمع مَعَاقِل: اونٹوں کو باندھنے کی جگہ۔ المَعْقُول جمع مَعْقُولات: سمجھا ہوا۔ عقل، کہتے ہیں: مالہ حول ولا مَعْقُول: اس کے پاس نہ تو طاقت ہے نہ عقل۔ عَلِمَ مَعْقُولاً وعَدِمَ معقولا: اس نے بات کو جان لیا مگر عقل سے بے بہرہ رہا۔ عِلمُ المعقولات: وہ علم جس میں عقلی چیزوں سے بحث کی جائے۔

۲۔ عَقَلَ ۔ِ عَقْلاً القتیلَ: مقتول کی دیت دینا، خون بہا دینا۔۔۔ عن فلان: کسی کی طرف سے تاوان یا دیت دینا۔۔۔ لہ دمَ فُلان: مقتول کے بدل قاتل کو قتل کرنے کے مطالبہ کے بجائے خون بہا پر راضی ہو جانا۔ اَعْقَلَ الرجُلُ: پر سال کی زکوۃ واجب ہونا۔ تَعَاقَلَ القومُ۔ دمَ القتیل: ادائیگی دیت (خون بہا) میں شرکت کرنا۔ اِعْتَقَلَ من دم فلان: کی دیت لینا۔ العَقْل جمع عُقُول: دیت، خون بہا۔ العِقَال جمع عُقُل و عُقُل: اونٹوں اور بکریوں کی ایک سال کی زکوۃ کہتے ہیں: اَدّیتُ عِقَالَ سَنَۃٍ: میں نے ایک سال کی زکاۃ ادا کر دی۔ عِقَالُ المئین: وہ شریف جس کے قید ہونے پر دو سو اونٹوں کو بطور فدیہ دیا جائے۔ العَاقِل جمع عاقِلۃ: دیت دینے والا۔ المَعْقُلَۃ جمع مَعَاقِل: دیت، جرمانہ، تاوان، کہتے ہیں: صار دمُہٗ مَعْقُلَۃً علی قومہ: اس کا خون قوم پر تاوان ہو گیا جسے وہ ہر سال ادا کرتی ہے۔

۳۔ عَقَلَ ۔ُ عَقَلَتِ المراۃُ شعرَھا: عورت کا اپنے بالوں میں کنگھا کرنا۔

۴۔ عَقَلَ ۔ِ عَقْلاً و عُقُولا الوعلُ: بارہ سنگے یا پہاڑی بکرے کا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر محفوظ ہو جانا۔۔۔ الیہ: کی، کے پاس پناہ لینا۔ العَاقِل جمع عاقِلۃ (ح): پہاڑی بکرا، بارہ سنگا۔ المَعْقِل جمع مَعَاقِل: جائے پناہ، پناہ گاہ، بلند پہاڑ۔

۵۔ العَاقُول جمع عَوَاقِیل: دریا کا بڑا حصہ۔ موج، وادی یا دریا کا موڑ، بے نشان زمین، مبہم معاملات۔

○ عَقَلَ ۔ِ عَقْلاً البعیرَ: اونٹ کی ٹانگیں ایک ساتھ

باندھ دینا۔ — ہ: کو نظر بند کرنا، پر نگرانی رکھنا، قید کرنا، روکنا، گرفتار کرنا، کو کشتی میں گرا دینا، پچھاڑ دینا۔ — ہ ل: کو مقتول کا خون بہا دینا۔ عَقَلَ: عقل اور سمجھ کی صلاحیت ودیعت کیا جانا، معقول ہونا، سمجھ، عقل، فہم وفراست اور ذہانت رکھنا، ہوش میں ہونا، واقف، آگاہ، باخبر ہونا۔ — ہ: کو سمجھنا، کا ادراک کرنا۔ عَقَلَ لسانَه: کی زبان بند کر دینا، کو ساکت کر دینا۔ عَقَّلَ ہ: کو معقول یا ہوشمند وزیرک بنانا۔ کو عقل سکھانا۔ تَعَقَّلَ: معقول ہونا، ہوشمند ہونا، زیرک ہونا، عاقل ہونا، مبنی بر عقل ہونا، معقول ہونا، عقل کے معیار پر پورا اترنا، ذہین ہونا، سمجھ دار ہونا، معاملہ فہم ہونا، ہوشیار ہونا، عقلمند ہونا۔ — ہ: کو پوری طرح سمجھنا، کا ادراک کرنا۔ اِعْتَقَلَ ہ: کو گرفتار کرنا، قید کرنا، کو نظر بند کرنا۔ — ہ: کو قرق کرنا، ضبط کرنا، کو باڑے میں بند کرنا، پر قبضہ کرنا۔

عَقْل: خون بہا، دیت جمع عُقُول: سمجھ، سوجھ بوجھ، عقل، حس، ہر معقول بات، ہوشمندی، ادراک، فہم، بصیرت، دقت نظر، معقولیت، دل، ذہن نفس، شعور، ذہانت، سمجھ، عقل وفہم فراست، ذہن، دماغ۔ مُخْتَل العقل: پاگل دیوانہ، آپے سے باہر، سلیم (صحیح) العقل: ہوشمند، اعتدال پسند۔ العقل الباطن (اللاشعوری او غیر الواعی) تحت شعور، لاشعور، نادانستہ، غیر ارادی۔ العقل الشعوری (او الواعی او الظاهر) تحت الشعوری، نیم شعوری۔ العقل المُمَيِّز: واقف آگاہ، باخبر، عقل الکترونی: بجلی کا کمپیوٹر۔ عَقْلِی: معقول مبنی بر عقل، عقلیت پر مبنی، دماغی، ذہنی، نفسی، نفسیاتی، عقلی جمع عَقْلِيُّونَ: دانشمند، دانش ور، صاحب علم و فراست، ذی فہم، عقلیت پسند، العَقْلِيَّات: ذہنی عالم۔ المذهب العقلی: عقلیت پسندی۔ الامراض العقلية: دماغی امراض۔ عَقْلِيَّة: ذہنیت، ذہنی رویہ۔ عُقْلَة جمع عُقَل: گرہ، گانٹھ، گومڑی، جوڑ، جوڑ کی ہڈی، داب، ورزشی پینگ، ورزشی جھولا، عِقَال جمع عُقُل: اونٹ کے پاؤں باندھنے کی ڈوری۔ سر کی پٹی جو اونٹ کے بالوں سے بنی ہوتی ہے اور کوفیہ کو اپنی جگہ پر رکھتی ہے۔ کوفِیة: سر کی چادر کو کہتے ہیں۔ اطلق حرب امن عِقالها: جنگ شروع کرنا۔ عَقُول: سمجھ دار، معقول، عقلمند، ہوشمند، زیرک، صاحب فہم وبصیرت، صاحب ادراک، ذہین، سمجھ دار، قبض کی دوا، عَقِيلَة جمع عَقائل: بہترین، پسند، بیوی، شریک زندگی۔ السيدة عقيلته: کی بیوی۔ عقائل الصفات: بہت ہی عمدہ خوبیاں۔

اَعْقَل: زیادہ ہوشیار، زیادہ طباع، حاضر جواب، ہونہار، زیادہ ذہین، سمجھدار، مَعْقِل جمع مَعَاقِل: پناہگاہ، جائے پناہ، قلعہ، بلند مقام، گڑھی، مضبوط مرکز، گڑھ، مرکز، مشین گن کا پختہ اڈا، زمین دوز جائے پناہ، مستحکم مورچہ۔ مَعْقُلة جمع مَعَاقِل: دیت، خون بہا۔ تَعَقُّل: سمجھ، ادراک، شناخت، فہم، نکتہ رسی، بصیرت، ادراک، شناخت، فہم، نکتہ چینی، بصیرت، ہوشمندی، معاملہ فہمی، تدبیر، عقلمندی۔ بِتَعَقُّلٍ: معقولیت سے، ہوشمندی، ذہانت سے۔ اِعْتِقَال: گرفتاری، قید، حراست، نظر بندی، اکڑن، کھچاوٹ۔ مَعْسكر الاعْتِقال: مرکز اسیران سیاسی، سیاسی قیدیوں کا کیمپ۔ (Concentration camp) عَاقِل جمع عاقلون و عُقَلاء و عُقَّال: سمجھ دار، معقول، عقلمند، ہوشمند، زیرک، ذہین، عقلیت پر مبنی، مبنی بر عقل، صاحب فہم وفراست، صاحب ادراک، ہوشیار، ہوشمند، معاملہ فہم مدبر، دانشمند، علم وعقل والا، اپنی ذہنی صلاحیتوں پر مکمل قابض، ہوشمند، اعتدال پسند، عَاقِلَة: چھوٹا قبیلہ (یا خاندان) جو بدوی کے غیر تحریری قانون کی رو سے اپنے ہر رکن کیلئے خون بہا کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ معقول: معقول، ہوشمندانہ، قابل فہم، بظاہر معقول، منطقی، عقل کے معیار پر پورا اترنے والا، عقل پر مبنی، عقلیت پر مبنی، تشویش مندحس یا حاسہ، ادراک فہم، سمجھ، ذہانت، فہم، فراست، ذہن، دماغ، نکتہ رسی، بصیرت، معاملہ فہمی، تدبیر، تمیز، عقل، عقل سلیم، سوجھ بوجھ، عام فہم وفراست، غیر معقول: ناقابل فہم، احمقانہ، بیہودہ۔ بے تکا، بے محل، لچر۔ مَعْقُولِيَّة: قابل فہم ہونا۔ سمجھ میں آسکنا۔ منطقی، معقولیت پسند یا معقول ذہنیت، منطقیت، معقولیت پسندی، معقول ومناسب ہونا۔ مُعْتَقَل جمع مُعْتَقَلات: سیاسی قیدیوں کا کیمپ، جیل کیمپ، نظر بندی کا کیمپ، قیدیوں کا کیمپ۔

عقم: عَقِمَ ـُ عَقْمًا و عُقْمَات المرأة او الرحمُ: عورت یا رحم کا بانجھ ہونا۔ — و عَقُمًا و اَعْقَمَ الله المرأة: اللہ کا کسی عورت کو بانجھ کرنا۔ عَقُمَ ـُ عَقْمًا وعَقِمَ ـَ عَقْمَات المرأة والرحمُ: عورت یا رحم کا بانجھ ہونا، عُقِمَ عَقْمًا و عُقْمَات المرأة او الرحمُ: عورت یا رحم کا بانجھ ہونا۔ — ت مَفَاصِلُه: جوڑوں کا خشک ہونا۔ عَقَمَ اللّٰه المرأةَ: اللہ تعالیٰ کا کسی عورت کو بانجھ کرنا۔ — الشَّیءَ: کے جراثیم کو مارنا۔ العَقَام: بے اولاد۔ حربٌ عُقَام: سخت لڑائی۔ حربٌ عُقَام: سخت لڑائی۔ داءٌ عُقَام: لاعلاج بیماری۔ یوم عُقَام: سخت دن۔ المرأة العقيم جمع عَقائِم و عُقُم بے اولاد عورت الرجل العقیم جمع عُقَماء و عِقَام و عَقْمَی: بے اولاد مرد۔ عقل عَقِيمٌ: عقل جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ حربٌ عقيمٌ: [illegible] کہتے ہیں۔ الدنیا عقیمٌ: دنیا بے برکت ہے۔ العقيمة من الارحام جمع عَقائِم: بانجھ رحم۔ المَعْقُوم من الرجال: بے اولاد مرد۔

۲۔ عَقِمَ ـِ عَقْمًا: خاموش ہونا۔ عَقَّمَ ہُ: کو خاموش کرنا۔

۳۔ عاقَمَ مُعاقَمَةً ہُ: سے جھگڑنا۔ العَقَام: بدخلق۔

۴۔ اِعْتَقَمَ الیه: کے پاس آنا جانا۔ — فی الأمر: میں دخل دینا۔ المُعْقَم: ہڈیوں کا جوڑ، ریڑھ کی ہڈیوں کے مہرے۔ جمع مَعَاقِم۔ مَعَاقِمُ الخیل: گھوڑے کے جوڑ۔

۵۔ العَقْم والعَقَمَة والعِقْمَة: سرخ کپڑا، نقش ونگار کی ایک قسم۔ العُقْمِيّ: خاندانی شرافت والا۔ والعِقْمِيّ من الکلام: پر اسرار بات۔

○ عَقَمَ ـُ و عَقُمَ ـُ عَقْمًا و عُقْمًا: بانجھ ہونا (عورت کا رحم کا) عَقَّمَ ہ و عَقَمَا ہ: (رحم) کو بانجھ کر دینا۔ عَقَّمَ ہ/ ہ: کو بانجھ کر دینا۔ — ہ: کے جراثیم مار ڈالنا، کو پاسچر کرنا (پاسچری طریقہ سے صاف کرنا) سے وبائی اثر دور کرنا، کو جراثیم سے پاک کرنا۔ تَعَقَّمَ: بانجھ ہونا۔ عَقْم وعُقْم وعَقَم: بانجھ پن۔ عُقْمَة: بانجھ پن، عقیم جمع عُقُم وعِقام: بانجھ، بے کار، بے ثمر، غیر موثر، بے اثر، غیر پیدا آور، لاحاصل، بے فائدہ، فضول، (کام، کوشش)۔ تعقیم: جراثیم کشی، اتلاف جراثیم، پاسچری (پاسچری طریقہ سے صاف کرنا) (Pasteurization) وبائی اثر دور کرنا اور جراثیم سے پاک کرنا۔ (Disinfection) مُعَقِّم: وبائی اثر دور کرنے والا، جراثیم سے پاک کرنے والا اور ایسے آلات۔ مُعَقَّم: بانجھ بنایا ہوا، پاسچر کیا ہوا، وبائی اثر دور کیا ہوا، جراثیم سے پاک کیا ہوا۔

عقا: ۱۔ عَقَا ـُ عَقْوًا و اعْتَقَی اِعْتِقاءً: کنواں کھودنا اور ایک طرف سے سوت نکالنا۔

۲۔ عَقَا ـُ عُقُوًّا العَلَمُ: جھنڈے کا بلند ہونا۔

۳۔ عَقَا ـُ عَقْوًا الامرَ: سے نفرت کرنا، سے کراہت کرنا۔

۴۔ عَقَا ـُ عَقْوًا فلانًا: کو روکنا۔ — وعَاقَی ہُ: کو سے روکنا۔ اِعْتَقَی الرجُلُ: رکنا۔ — فلانًا: کو روکنا۔

عقی: ۱۔ عَقَی ـِ عَقْيًا الامرَ: کو مکروہ جاننا۔ اَعْقَی اِعْقَاءً: کڑوا ہونا۔ — الشیَ: کو مکروہ جاننا، ناپسند

كرنا۔

۲- عَقَى ـ عَقْيًا وعقّى الولدَ: بچے کو گھٹی پلانا۔ العِقْى جمع اَعْقَاء: نومولود کا پاخانہ۔

۳- عَقَى الطائرُ: اونچا اڑنا۔

۴- العَقْوَة جمع عِقَاء: گھر کا اردگرد۔ میدان، محلہ۔ العِقيان: خالص سونا۔

علك: ۱- عَكَّ ـُ عَكًّا اليومُ: دن کا سخت گرم اور حبس والا ہونا۔ ـ تہ الحُمّٰى: کو لگاتار بخار ہونا۔ ـ ۂ بالامر اوبالقول: کو بار بار کہہ کر تھکا دینا۔ ـ ۂ بالحُجّة: کو دلیل سے مغلوب کرنا۔ ـ ۂ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔ ـ ۂ بشر: کو بار بار نقصان پہنچانا۔ عُكَّ: گرمی سے جوش مارنا۔ ـ الرجلُ: کو سخت بخار چڑھنا۔ عَاكَّ ۂ علیہ: کو پر مائل کرنا۔ العَكّة و العُكّة جمع عِكَاك: گرمی کی شدت اور حبس، تیز بخار، گرم ریت۔ ليلة عَكّة: سخت گرم رات۔ العِكّة جمع عِكَاك و العِكَاك: بمعنی عَكّة (حبس کے ساتھ سخت گرمی) العَكِيكَ جمع عِكَاك: حبس کے ساتھ سخت گرمی۔ يومٌ عكيكٌ: سخت گرم دن۔

۲- عَكَّ ـُ عَكًّا الرجلَ: کے حق میں ٹال مٹول کرنا۔ ـ ۂ عن حاجته: کو اس کی ضرورت سے باز رکھنا۔

۳- عَكَّ ـُ عَكًّا الكلامَ: بات کی وضاحت کرنا۔

۴- العُكّة جمع عُكَك و عِكَاك: گھی کی چھوٹی مشک۔ سَمِنَ الصبي حتى صار كالعُكّة: بچہ گھی کی چھوٹی مشک کی مانند موٹا ہو گیا، عوام ولد مُعَكْعِك (گھی کی چھوٹی مشک مانند موٹا بچہ) کہتے ہیں۔

○ عَكَّ ـ عَكًّا (دن کا) حبس والا ہونا، گرم مرطوب اور ہمس والا ہونا۔ عَكّ: حبس والا، حابس، گرم مرطوب اور ہمس والا، سخت گرم۔ عَكّة و عَكّاء و عَكًّا: عکہ (فلسطین کی بندرگاہ) عَكِيك: حبس والا، گرم مرطوب اور ہمس والا اور سخت گرم (دن)۔

عكب: ۱- عَكَبَ ـُ عُكوبًا تِ القِدرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ ـ تِ الابلُ: اونٹوں کا ہجوم کرنا۔ عَكِّبَ تِ النارُ: آگ کا دھوئیں والی ہونا۔ تَعَكَّبَ تہُ الهمومُ: پر غموں کا ہجوم کرنا، کو غموں کا گھیر لینا۔ اِعْتَكَبَ الغبارُ: گرد و غبار اٹھنا۔ ـ الغبارَ: گرد و غبار اڑانا۔ ـ المكانُ: جگہ کا غبار والی ہونا۔ ـ تِ الابلُ: اونٹوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور غبار اڑانا۔ المَعَاكِب (فا) جمع عُكُوب: بھیڑ۔ انبوہ العُكُبُ و العَكُوب والعَاكُوب: گرد و غبار۔ العُكَاب: گرد و غبار، دھواں، ہانڈی کی بھاپ۔ العُكُوب: گرد و غبار۔

۲- عَكَبَ ـُ عُكُوبًا الرجلُ: آدمی کا ٹھہر جانا۔

۳- عَكَبَ ـ عَكَبًا: پاؤں کی انگلیوں کے قریب قریب ہونے والا ہونا صفت اَعْكَب م عَكْباء جمع عُكْب۔

۴- عَكِبَ ـ عَكَبًا: موٹے ہونٹ اور جبڑے والا ہونا۔

۵- الاَعْكُب و العِكَاب و العُكُب: العنكبوت (مکڑی) کا اسم جمع۔ العَكُوب (ن): ایک خاردار سبزی جس کی گوند زمین سے نکال کر کھائی جاتی ہے (سریانی لفظ)۔

۶- العِكْبِر: ایک چیز جس کو شہد کی مکھی پروں پر لگا کر لاتی ہے اور شہد کی جگہ میں ان کو رکھتی ہے۔

۷- عَكْبَشَ ۂ: کو مضبوط باندھنا۔ تَعَكْبَشَ فيه الغُصن: میں ٹہنی کے کانٹے چبھنا۔

عكد: ۱- عَكَدَ ـِ عَكْدًا و اَعْكَدَ اليه: کے پاس پناہ لینا۔ عَكِدَ ـَ عَكَدًا به و اعْتَكَدَهُ: کا ساتھ دینا، کے ساتھ لگا رہنا۔ العُكْدة: گوہ کا بل۔

۲- عَكَدَ ـِ عُكْدًا و اَعْكَدَ الامرُ فلانًا: کے لئے کوئی کام وغیرہ ممکن ہونا۔ العُكْدة: طاقت۔

۳- عَكِدَ ـَ عَكَدًا الضبُّ: گوہ کا موٹا ہونا صفت: عَكِد اِستَعْكَدَ الضبُّ: گوہ کا موٹا ہونا۔ ـ الماءُ: پانی کا جمع ہونا۔

۴- عُكْدُ الشيء: چیز کا درمیان کہتے ہیں: عُكْدُك هذا الامر: یہ کام تمہارا مطلوب و مقصود ہے۔ العُكْدة: دم کی ہڈی۔ عُكْدة اللسان: زبان کی جڑ۔

عكر: ۱- عَكَرَ ـِ عَكْرًا و عُكُورًا عليه: پر حملہ کرنا، پھرنا مڑنا، مائل ہونا۔ کہتے ہیں: عَكَر عليه الزمان بخير: زمانہ اس پر خیر و برکت کے ساتھ مائل ہوا۔ اِعْتَكَرَ عليه: پر حملہ کرنا۔ العَكْرة و المَعْكَر: بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرنا۔ العَكّارة: بہت حملے کرنے والا۔

۲- عَكِرَ ـَ عَكَرًا الماءُ ونحوهُ: پانی وغیرہ کا گدلا ہونا۔ صفت عَكِر۔ عَكَّرَ الماءَ: پانی کو گدلا کرنا۔ اَعْكَرَ الليلُ: رات کا سخت تاریک ہونا۔ ـ الماءَ: پانی کو گدلا کرنا۔ تَعَاكَرَ القومُ في الحرب: گھمسان کی جنگ کرنا۔ اِعْتَكَرَ الليلُ: رات کا بہت تاریک ہونا۔ ـ المطرُ: سخت بارش برسنا۔ ـ تِ الريحُ: ہوا کا گرد و غبار اڑا لانا۔ ـ القومُ في الحرب: گھمسان کی جنگ کرنا۔ العَكَر: تلوار کا زنگ۔ ـ من كل شيئ: تلچھٹ، جیسے مثلاً تیل کی تلچھٹ۔ العَكَرة: اختلاط، التباس، کہتے ہیں: وقعوا في عَكَرةٍ: وہ معاملہ کی گڑبڑ میں پڑ گئے۔

۳- اَعْكَرَ الرجلُ: اونٹوں کے گلے والا ہونا۔ العَكَرة جمع عَكَر: اونٹوں کا گلہ۔

۴- العِكْر: اصل، جڑ (کہتے ہیں: رجع فلانٌ الى عِكْرِه: فلاں شخص اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا۔) عادت۔ العَكَرة جمع عَكَر: زبان کی جڑ۔

۵- عِكْرِمُ الليل: رات کی تاریکی۔ عِكْرِمة (معرفة) اور العِكْرِمة (ح): کبوتری یا مادہ قمری۔

○ عَكِرَ ـ عَكَرًا: گدلا، میلا یا کیچڑ والا ہونا یا ہو جانا۔ عَكَّرَ ہ/ علی: کو میلا یا گدلا کرنا یا کیچڑ والا کرنا، میں خلل ڈالنا، کو درہم برہم کرنا، میں تلاطم برپا کرنا، (امن) تباہ کرنا۔ عَكَّرَ الصفوَ: امن کی حالت تباہ کرنا، نظام درہم برہم کرنا۔ عَكَّرَ صَفْوَه و عَكَّرَ عليه الصفو: کی خوشدلی کو مار ڈالنا، کی خوش طبعی کو پامال کر دینا۔ تَعَكَّرَ: گدلا یا میلا یا کیچڑ والا ہو جانا (صورت حال کا) بگڑ جانا، ابتر ہو جانا، خراب ہو جانا، سنگین ہو جانا، بدتر ہو جانا۔ عَكَر: گدلا پن، میلا پن، کیچڑ والا ہونا، تلچھٹ، دُرد، گاد۔ عَكِر: گدلا، میلا، کیچڑ والا، متلاطم، درہم برہم۔ عُكَارة و عِكَارة: تلچھٹ، دُرد، گاد۔ تَعْكِير: گدلا کرنا، میلا کرنا، کیچڑ والا کرنا، یا ایسا کرنے کا عمل۔ گڑبڑ، خلل، ہلچل، طلاطم پیدا کرنا، ابتری، پراگندگی، بے ترتیبی۔ مُعَكَّر: گدلا، میلا، کیچڑ والا۔ تلچھٹ دار، متلاطم، درہم برہم۔

عكز: ۱- عَكَزَ ـِ عَكْزًا الرمحَ: نیزہ گاڑنا۔ ـ على عُكّازته: اپنی چھڑی پر ٹیک لگانا، کا سہارا لینا۔ ـ بالشيء: سے راہ پانا۔ عَكَّزَ الرمحَ: نیزے میں پھل لگانا۔ تَعَكَّزَ قوسَهُ: کمان کو سہارا بنانا۔ ـ على عُكّازته: ڈنڈے کو سہارا بنانا۔ العُكّاز و العُكّازة جمع عَكَاكِيز و عُكّازات: ڈنڈا جس کے نیچے پھل یا سم لگا ہوا، جس پر ٹیک لگائی جائے، پادری کا ڈنڈا۔

۲- عَكِزَ ـَ عَكَزًا: سکڑنا۔ العِكْز: بخیل، کنجوس۔

۳- العِكْز: بدخو۔

○ تَعَكَّزَ على: (لاٹھی وغیرہ پر) ٹیک لگانا۔ عُكّاز و عُكّازة جمع عُكّازات و عَكَاكِيز: ڈنڈا، سونٹا، لاٹھی، عصاء، چھڑی، بید یا بیساکھی۔

عكس: ۱- عَكَسَ ـِ عَكْسًا الكلامَ و نحوهُ: بات کو الٹ دینا۔ ـ الشيءَ: کے آخر کو اول کر دینا کو زمین کی طرف جھٹکا دے کر کھینچنا اور پھینک دینا۔ ـ راسَ البعير: اونٹ کے سر کو موڑنا۔ ـ البعيرَ: اونٹ کو نکیل لگا کر رسی کو ٹانگ سے باندھ دینا۔ ـ ۂ عن الامر: کو سے ہٹا دینا، پھیر دینا۔ ـ على فلانٍ امرَهُ: معاملہ کو اس پر لوٹا دینا۔ ـ تِ المرآةُ صورةَ فلانٍ: آئینہ کا کسی کی شکل کو منعکس کرنا۔ عَاكَسَ مُعَاكَسَةً و عِكَاسًا الكلامَ: بات کو پلٹ دینا۔ ـ ۂ: ایک دوسرے کی

پیشانی کو پکڑنا، کی مخالفت کرنا، (عامی زبان میں)۔
تَعَکَّسَ فی مشیته: رینگ کر چلنا۔ تَعَاکَسَ و اِعْتَکَسَ: پلٹ جانا۔ اِنْعَکَسَ: پلٹ جانا، کہتے ہیں۔ انعکس النورُ: روشنی پلٹ گئی اور ایک سطح شدہ پر پڑنے کے بعد واپس ہو گئی۔ عِکَاسُ البعیر: نکیل کی رسی جو اونٹ کے گھٹنے پر باندھتے ہیں۔ عَکْسُ القضیّة (ح): دوسرا مسئلہ جسے پہلے مسئلہ کے نتیجہ نے عائد کیا ہو اور اس کا نتیجہ پہلے مسئلہ کا مفروضہ ہو۔ العَکِیس: رسی جس سے اونٹ کو روکتے ہیں۔(ز): درخت کی شاخ جس کو زمین میں دبا دیتے ہیں کہ اس سے درخت نکلے۔

۲۔ عَکَسَ ـِ عَکْسًا الطعامَ: کھانے میں دودھ ملا شوربہ ڈالنا۔ اِعْتَکَسَ: دودھ ملا ہوا شوربہ بنانا۔ العَکِیس: شوربے میں ملایا ہوا دودھ۔

۳۔ عَکِسَ ـَ عَکَسًا: تنگ خو ہونا۔

۴۔ العَکِیسَة: بہت سے اونٹ۔ اندھیری رات۔ العُکاس (ح): مکڑی (نر)۔

○ عَکَسَ ـِ عَکْسًا ہ: کو اوندھا کرنا، الٹانا، الٹا کرنا، کو منعکس کرنا، کا آئینہ دار ہونا عَاکَسَ ہ/ ہ: کا توڑ کرنا، دفعیہ کرنا، کی مخالفت کرنا، کی تردید کرنا، کے الٹ ہونا، کے برعکس ہونا۔ ــــ ہ: کی راہ میں حائل ہونا، میں مزاحم ہونا۔ ــــ ہ/ ہ: کو درہم برہم کرنا، میں خلل ڈالنا، کو تکلیف دینا، زحمت دینا، میں تلاطم پیدا کرنا، کو تباہ کرنا۔ ــــ ہ: کو جان بوجھ کر چھیڑنا، پریشان کرنا، تنگ کرنا، دق کرنا، کے سر ہو جانا، ستانا، زچ کرنا۔ تَعَاکَسَ: اوندھا ہونا، الٹنا، منعکس ہونا۔ انعکس: الٹایا جانا، اوندھا ہونا۔ ــــ علی: پر منتج ہونا۔ ــــ علی/ عن: میں یا پر منعکس ہونا۔ عَکْس: الٹا ہونا یا کرنا، واپس آنا، الٹا کرنا، اوندھا کرنا، انعکاس، الٹ، الٹا، بالکل الٹ، بالکل برعکس، پشت، دوسری جانب۔ عکسَ ذلكَ اور علی عکس ذلك: کے برعکس، کے برخلاف، کے علی الرغم، کان علی العکس من: کے برعکس ہونا، کے برخلاف ہونا۔ بالعکس: نہیں بلکہ کے الٹ، بالعکس۔ و العکسُ بالعکس: اور یونہی اس کے برعکس بحث المسألة طردًا و عکسًا: اس نے مسئلہ کا تمام پہلوؤں سے مطالعہ کیا۔ عکسی: برعکس، متناقض، متضاد، مخالف، مخالفانہ، برخلاف، ناموافق، نامساعد، عِکْیس: داب، کونپل، مُعَاکَسَة جمع مُعَاکَسَات: خلل، گڑ بڑ، ہلچل، چھیڑ چھاڑ، تنگ کرنا، ناک میں دم کرنا، پریشانی، جدوجہد، لڑائی، جنگ۔ مُعَاکَسَة الحالة الجویة: موسم کی خرابی۔ اِنعکاس: منعکس ہونا جمع انعکاسات: غیر شعوری فعل۔ انعکاسی: انعکاس سے متعلق، غیر شعوری، اضطراری۔ حرکة انعکاسیة: غیر شعوری یا اضطراری عمل، غیر شعوری فعل۔ عَاکِس: پردہ، لیمپ پوش Lamp shade۔ عکس انداز (Reflector) عَاکِسَة: عکس انداز (Reflector)۔ لیمپ سرپوش۔ مُعَاکِس: الٹا، الٹ، جوابی، الزامی، مخالف، برعکس، شکن، توڑ، مار۔ هَجَمَةٌ مُعَاکِسَة: جوابی حملہ Counter-attack مُتَعَاکِس: مقابل، بالمقابل، الٹ، مخالف، متصادم، باہم دگر آویزاں۔ مُنْعَکِس: منعکس (Reflected) صورة منعکسة: آئینہ میں عکس، منعکس عکس، عکس، غیر شعوری فعل۔ افعال مُنْعَکِسَة: غیر شعوری یا اضطراری اعمال۔

عکش: ا۔ عَکَشَ ـِ عَکْشًا الشیْءَ: کو جمع کرنا۔ صفت فاعلی عَکِش صفت مفعولی مَعْکُوش۔ ــ الرجُلَ: کو مضبوط باندھنا۔ ــــ علیه: پر حملہ کرنا۔ عَکِشَ ـَ عَکَشًا الشعرُ: بالوں کا پیچیدہ اور تہ بتہ ہونا۔ ــــ النبتُ: نباتات کا بہت اور گنجان ہونا۔ تَعَکَّشَ الامرُ: دشوار ہونا۔ الشیْءُ: سکڑنا۔ ــ الشعرُ: بالوں کا پیچیدہ اور تہ بتہ ہونا۔ العَکِش من الشعر: پیچیدہ اور تہ بتہ بال۔ شَجَرَةٌ عَکِشَة: بہت ٹہنیوں والا گنجان درخت العُکَاش و العُکَّاش و العُکَاشَة و العُکَّاشَة (ح): مکڑی، مکڑی کا جالا۔

۲۔ العَکِش: بے خیر شخص۔

○ عُکَاشَة: بھونڈا پن، بھدا پن، پھوہڑپن۔ عُکَاشَةُ و عُکَّاشَة: مکڑی۔ مکڑی کا جال۔

عکص: عَکَصَ ـِ عَکْصًا عن حاجته: کو اس کی حاجت سے ہٹانا، پھیرنا۔ عَکِصَ ـَ عَکَصًا: بدخلق ہونا۔ صفت عَکِص۔ ــ ت الدابةُ: جانور کا سرکشی کرنا۔ تَعَکَّصَ بکذا علیه: پر کا بخل کرنا۔ رملة عَکِصَة: دشوار گزار ریت کا ٹیلہ۔

عکظ: عَکَظَ ـِ عَکْظًا ہُ: کو روکنا۔ تَعَکَّظَ علیه الامرُ: پر کام وغیرہ دشوار ہونا۔

۲۔ عَکَظَ ـِ عَکْظًا الشیْءَ: کو رگڑنا۔ ــ الادیمَ: چمڑے کو دباغت کے لئے رگڑنا۔ ــــ ہُ: کو مغلوب کرنا، کے فخر کو رد کرنا۔ ــــ بالشیْ: پر فخر کرنا۔ تَعَکَّظَ القومُ: اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا۔ تَعَاکَظَ القومُ: آپس میں مقابلہ کرنا، آپس میں فخر کرنا۔ آپس میں جھگڑا کرنا۔ عُکَاظ: عرب کے ایک بازار کا نام جہاں عربی قبائل جمع ہو کر خرید و فروخت کرتے اور مفاخرت کے اشعار پڑھا کرتے تھے (مذکر و مونث)

۳۔ عَکَظَ ـِ عَکْظًا و عَکَّظَ ہُ عن حاجته: کو اس کی حاجت سے ہٹانا اور پھیر دینا۔ عَاکَظَ مُعَاکَظَةً ہُ: کو ٹال دینا۔

۴۔ العَکِظ و العَکِیظ: پستہ قد۔

عکف: ا۔ عَکَفَ ـُ عُکُفًا ہُ عن الامر: کو کسی کام سے منع کرنا۔ عَکَّفَ ہُ عن کذا: کو سے روکنا، منع کرنا۔

۲۔ عَکَفَ ـُ عُکُفًا ہ علی الامر: کو کسی چیز پر روکے رکھنا۔ عَکْفًا و عُکُوفًا علی الامر: پر جمے رہنا۔ ــــ القومُ حوله و به: کے گرد اگرد چکر لگانا۔ ــــ و تَعَکَّفَ و اِعْتَکَفَ فی المکان: کسی جگہ میں بند رہنا۔ ٹھہرنا۔ عَکَّفَ الجوهرَ: کو تہ بتہ رکھنا۔ عاکف مُعَاکَفَةً ہُ: کے ساتھ ساتھ رہنا۔ العَاکِف (فا) جمع عَاکِفُون و عُکَّف و عُکُوف: مقیم۔

۳۔ عَکَفَ الشعرَ: بالوں کو گھنگریالے کرنا۔ العَکِف من الشعر: گھنگریالے بال۔ شَعَرٌ مَعْکُوف: کنگھی چوٹی کئے ہوئے بال المُعَکَّف (مفع): مڑا ہوا، ٹیڑھا۔

○ عَکَفَ ـِ عُکُوفًا علی: سے وابستہ رہنا، پر جمے رہنا، سے لگا رہنا، چمٹنا، لپٹنا، اپنے آپ کو کی نذر کرنا۔ کیلئے وقف کرنا، مخصوص کرنا، تن دہی سے کوئی کام کرنا، کا عادی ہونا، کو دل کھول کر یا جی بھر کے کرنا، کو اپنے اوپر طاری کئے ہونا، پر تلا ہونا، میں مشغول ہونا، اپنے آپ کو میں مشغول رکھنا۔ ــــ فی: میں تنہا رہنا۔ عَکَفَ ـُ عَکْفًا ہ عن: کو سے روکنا، منع کرنا۔ عَکَّفَ ہ عن: کو سے روکنا۔ تَعَکَّفَ ہ: میں تنہا رہنا (عن سے)۔ اِعْتَکَفَ بمعنی تَعَکَّفَ: نیز اِعْتَکَفَ الی: اپنے آپ کو کی نذر کرنا، کیلئے وقف کرنا، مخصوص کرنا، اپنے آپ کو میں مشغول رکھنا۔ عَاکِف جمع عَاکِفُون و عُکُوف و عُکَّف علی: کا عادی، کو اپنے اوپر طاری یا مسلط کئے ہوئے، پر آمادہ، تلا ہوا، میں از حد مشغول۔

عکل: ا۔ عَکَلَ ـِ عَکْلًا الشیْءَ: کو بکھرنے کے بعد اکٹھا کرنا۔ المتاعَ: سامان تہ بتہ رکھنا۔ ــ البعیرَ: اونٹ کو رسی سے بازو اور پاؤں ملا کر باندھنا۔ العِکَال: اونٹ کے گھٹنے باندھنے کی رسی۔ المِعْکَل جمع مَعَاکِل: چرواہے کی سوٹی جس کو وہ درخت سے بنا لیتا ہے۔

۲۔ عَکَلَ ـُ عُکْلًا الرجُلَ: کو پچھاڑنا۔ ــ فلانٌ: مرنا۔ اِعْتَکَلَ الثوران: بیلوں کا سینگوں سے لڑنا۔

۳۔ عَکَلَ ـِ عَکْلًا فی الامر: کی کوشش کرنا۔

۴- عَكَل ـِ عَكْلاً و اَعْكَلَ و اِعْتَكَلَ عليه الامرُ: پر معاملہ مشکل اور مشتبہ ہونا۔

۵- اِعْتَكَلَ الرجُلُ: جدا ہونا۔

۶- العُكْلُ و العِكل جمع اَعْكَال: لئیم، کمینہ۔ العَاكِل جمع عُكُل: بخیل، پستہ قد۔

عکم: ۱- عَكَمَ ـِ عَكْمًا المتاعَ: سامان کو اکٹھا کر کے کپڑے سے باندھنا، کی گٹھری باندھنا۔ البعيرَ: اونٹ پر باندھنا۔ ـلارض كذا: کسی خطہ کا ارادہ کرنا۔ عَاكَمَ مُعَاكَمَةً ہُ على فلان: کے خلاف کسی کی مدد کرنا۔ اَعْكَمَ ہُ: کو باندھنے میں مدد دینا۔ اِعْتَكَمَ الشئُ: کا ڈھیر لگنا۔ العِكْم جمع اَعْكَام و عُكُوم: بنڈل، گٹھر، بوجھ، کنوئیں کی چرخی، عورتوں کے سامان رکھنے کا بیگ۔ بوری جانور کی پیٹھ پر ایک طرف کا بوجھ۔

۲- عَكَمَ ـِ عَكْمًا عليه: پر حملہ کرنا۔

۳- عَكَمَ ـِ عَكْمًا ہُ عن زيارته: کو کسی سے ملنے سے روکنا۔ عُكِمَ عنه: کو ملنے سے باز رکھا جانا۔ العَكُوم: پھرنے کی جگہ، کہتے ہیں۔ ماله عَكُومٌ عن كذا: اس کے لئے فلاں چیز سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں۔

۴- عَكَمَ عَكْمًا الرجلُ: انتظار کرنا۔ ـ عن الامر: سے پیچھے ہٹنا۔

۵- عَكَمَ ـِ ت الابلُ: اونٹوں کا فربہ ہونا۔ المِعْكَم: پر گوشت۔

○ عَكَمَ ـِ عَكْمًا ہ: کا پلندا بنانا، کی گٹھری باندھنا، کو پیک کرنا، کو کپڑے میں باندھنا۔

عکن: تَعَكَّنَ البطنُ: موٹاپے کی وجہ سے پیٹ میں سلوٹیں پڑنا۔ العُكْنَة جمع عُكَن و اعكان: پیٹ کی سلوٹ۔ درعٌ ذات عُكَن: وسیع و کشادہ زرہ۔ العِكان: گلا۔ العَكْنَاء من النوق او الشاء: موٹے تھن والی اونٹنی یا بکری۔

عکا: ۱- عَكَا ـُ عَكْوًا ذَنَبَ الدابّة: جانور کی دم کو اس کی جڑ کی طرف موڑنا۔ کہتے ہیں: فرسٌ مَعْكُوٌّ: دم مڑا گھوڑا۔ ـ ہُ فی الحديد: کو قید کرنا اور باندھنا۔ (ہتھکڑی لگانا)۔ الضبُّ بذنبه: گوہ کا اپنی دم موڑنا۔ ـ على قومه: اپنی قوم کی طرف مائل ہونا۔ ـ ت الابلُ: اونٹوں کا فربہ ہونا۔ ـ بازاره: ازار باندھنے کی جگہ کو سخت کرنا۔ العَكْوَة جمع عُكًا و عِكاء: جانور کی دم کی جڑ، زبان کی جڑ، ازار کی سخت گانٹھ، ہر چیز کا موٹا اور بڑا حصہ۔ العُكْوَة جمع عُكًا و عِكاء: بمعنی العَكْوَة: تکلا۔ العَكِيّ من البان الضان: بھیڑوں کا دودھ جو ایک دوسرے پر دوہنے کی وجہ سے گاڑھا ہو گیا ہو۔ الاَعْكَى م عَكْواء: سخت دم کی جڑ والا، سخت پہلوؤں والا۔

۲- عَكَا ـُ عَكْوًا الدخانُ: دھواں اوپر چڑھنا۔

عَكِيَ ـِ عَكْيًا: مرجانا۔ ـ بازاره: ازار بند باندھنے کی جگہ کو سخت کرنا۔ ـ بالمكان: کسی جگہ میں قیام کرنا۔ صفت عالٍ جمع عُكَاة۔ عَكَّى: مرجانا۔ ـ الدخان: دھوئیں کا آسمان میں چڑھنا۔ اَعْكَى: مر جانا۔ ـ ہُ: کو باندھنا۔

علّ: ۱- عَلَّ ـُ ـِ عَلًّا و عَلَلاً و تَعِلَّةً: دوسری بار پینا، لگاتار پینا۔ ـ ہُ: کو دوسری بار لگاتار پلانا۔ ـ ہُ ضربًا: کو لگاتار مارنا۔ عَلَّلَ ہُ: کو بار بار پلانا۔ ـ الثمرةَ: بار بار پھل توڑنا۔ اَعَلَّ الرجُلَ: کو بار بار پلانا یعنی گھونٹ گھونٹ پلانا۔ تَعَالَلَ الصبیُّ ثدیَ اُمِّهِ: بچے کا اپنی ماں کے پستان سے تمام دودھ چوس لینا۔ اِعْتَلَّ الرجُلُ: دوسری بار پینا۔ العَلَّة جمع عَلَّات: سوکن۔ کہتے ہیں: بنو علات: ایک مرد سے چند ماؤں کے بیٹے، اس کے برعکس کو اولاد (الاخیاف کہتے ہیں)۔ العَلَل (مص): دوسری بار پینا، کہتے ہیں عَلَلٌ بعد نَهَل: پہلی بار پینے کے بعد لگاتار پینا، مراد تھوڑے پر اکتفاء کے بعد پیاس بجھانا۔ العُلَالَة: پہلی بار دودھ دوہنے کی مہلت کے بعد دوہا ہوا دودھ، بقیہ دودھ وغیرہ، نیزہ بازی کے بعد نیزہ بازی اور دوڑ کے بعد دوڑ۔ العَليلة جمع عَلِيلات و عَلائِل: بار بار خوشبو لگانے والی عورت۔

۲- عُلَّ عِلَّةً: بیمار ہونا۔ عَلَّلَ الكلمةَ: کلمہ کے اعلال کی وجہ بیان کرنا، تعلیل کرنا، میں اعلال داخل کرنا۔ ـ ہُ: کا علاج کرنا۔ ـ ہُ بكذا: کو میں مشغول کرنا، کو سے پھیرنا، سے کا دل بہلانا۔ ـ المالَ: مال کا بہترین انتظام کرنا۔ اَعَلَّ ہُ اللّٰہ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیمار کرنا۔ ـ الكلمةَ: کلمہ میں اعلال داخل کرنا۔ تَعَلَّلَ ت المرأةُ من نفاسها: عورت کا نفاس سے پاک ہونا۔ ـ بكذا: میں مشغول ہونا۔ تَعَالَّ ت المرأةُ من نفاسها: عورت کا نفاس سے پاک ہونا۔ اِعْتَلَّ: بیمار ہونا۔ ـ بالامر: میں مشغول ہونا، کے لیے عذر بیان کرنا۔ ـ عنه: سے بیمار پڑنا۔ عَلَّ بمعنی لعَلَّ، العَلّ جمع اَعْلال: بیماری سے سکڑی ہوئی جلد والا، بڑی عمر کا لاغر شخص۔ العَلَّة جمع عَلَّات: بہلاوہ۔ العِلَّة جمع عِلَّات و عِلَل و جمع الجمع اَعْلال: بیماری، مشغول کرنے والا واقعہ۔ ـ فی العروض: وہ تغیر جو اشعار کے عروض و ضروب میں لازمی پر لاحق ہو۔ سوائے نادر صورتوں کے۔ کہتے ہیں: لا يَعْدَمُ مانعٌ عِلَّةً: یہ اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جو عذر کر کے اپنے مال میں کمی اور اسے جوں کا توں چھوڑنے کو روک لے۔ العِلَّات: حالات و مختلف کام، کہتے ہیں: جری على عِلَّاتِه: بہرحال یا باوجود مختلف احوال کے قبول کیا گیا۔ العُلَالَة و التَعِلَّة: بہلاوہ۔ العَليل جمع اَعِلّاء والمُعَلّ والمَعْلُول: مریض، بیمار۔ العليلة جمع عَلِيلات و عَلائِل: علیل کا مونث۔ الاعلال (مص): حرف کو الٹنے، ساکن کرنے یا حذف کرنے سے بدلنا۔

۳- عَلَّلَ الشئَ: کی علت بیان کرنا اور دلیل سے ثابت کرنا۔ تَعَلَّلَ: حجت کا اظہار کرنا اور اس پر قائم رہنا۔ العِلَّة جمع عِلَّات و عِلَل و جج اَعْلال: باعث۔ عِلَّة الشئ: چیز کا سبب۔

۴- اِعْتَلَّ ت الريحُ: ہوا کا نرم ہونا۔ ـ ت الكلمةُ: کلمہ میں حرف علّۃ ہونا، حرف علت والا ہونا۔ حروف العِلَّة: الف، واو اور یاء۔

۵- اِعْتَلَّ ہُ: پر کسی جرم کا جھوٹا الزام لگانا۔

۶- العَلّ جمع اَعْلال: موٹا بکرا، بے خیر شخص۔

۷- اليَعْلول جمع يَعَاليل: (یاء زائد ہے) سفید حوض، پانی کے بلبلے، سفید بادل یا تہ بتہ بادل۔ بارش کے بعد بارش۔

○ عَلَّ ولَعَلَّ: شاید، ہو سکتا ہے کہ من يدرى لعَلَّ کون جانتا ہے کہ شاید۔ عَلَّ ـِ وعُلَّ: بیمار ہونا یا بیمار پڑ جانا۔ عَلَّلَ ہ ب: کو میں مشغول رکھنا۔ کیساتھ کی توجہ ہٹانا۔ ـ ہ ب: سے کا جواز پیش کرنا، سے کی توجیہ کرنا، سے کا محرک یا باعث بننا، سے کی وضاحت کرنا، عَلَّلَ نفسَہُ (النفسَ) ب: کی امیدیں جی بھر کے کرنا، امید لگائے رکھنا، کی خواہش زندہ رکھنا، پر امید لگائے رکھنا کہ...... اس خیال کا عادی ہونا کہ عَلَّلَ نفسَہُ بآمال: امیدوں سے جی بھر کے مزے لینا، لاحاصل امیدیں لگائے رکھنا، عَلَّلَ الآمالَ ب: کی امید لگائے رکھنا۔ عَلَّلَه بالوعود: کو وعدوں سے ٹالنا۔ تَعَلَّلَ ب: میں مشغول ہونا، کے ذریعے اپنی توجہ ہٹانا، سے دل بہلانا۔ تَعَلَّلَ: معذرت کرنا، عذر پیش کرنا۔ تَعَلَّلَ ب: کا عذر کرنا، کا بہانہ کرنا، کو بطور مصلحت استعمال کرنا، کو بطور عارضی بندوبست استعمال کرنا۔ تَعَلَّلَ بِعِلَّةٍ: کا بہانہ بنانا، عذر کرنا، کو بطور معذرت کا عذر پیش کرنا، اِعْتَلَّ: بیمار ہونا یا پڑ جانا، کمزور و لاغر ہونا، ناقص ہونا، معذرت کرنا، عذر پیش کرنا۔ ـ ب (على کیلئے) وجہ یا عذر پیش کرنا۔ ـ ب: کو بطور عذر، بہانہ پیش کرنا۔ عِلَّة جمع عِلَّات وعِلَل:

بیماری، مرض، کمی، نقص، کمزوری (جمع عِلَل) باعث، سبب، موقع، عذر، بہانہ، معذرت، علیٰ عِلاَّتِہٖ: اپنی خامیوں کے باوجود، جیسے وہ ہے۔ العِلّة والمَعْلُول: علت و معلول، سبب و مسبب (Cause + Effect)۔ اتخذ المعلول علة: وہ غلطی سے معلول کو علت سمجھا۔ مُعَلّ: بیمار۔ مُعْتَلّ: بیمار، کمزور (حرف) ناقص (لفظ)۔

علب: ۱۔ عَلَبَ ـُ عَلْبًا و عَلَّبَ الشیٔ: کو کاٹنا، پر نشان لگانا، پر خراش لگانا۔ عَلِبَ ـَ عَلَبًا السیفُ: تلوار کا دندانہ دار ہونا۔ العَلْب (مص) جمع عُلُوب: ضرب وغیرہ کا نشان۔

۲۔ عَلَبَ ـُ عُلُبًا و عَلِبَ ـَ عَلَبًا: سخت ہونا صفت: عَلِب۔ ـــ و اسْتَعْلَبَ اللحمُ: سخت ہونے کے بعد گوشت کی بو بدل جانا۔ العَلْب و العِلْب و العُلَب جمع عُلُوب: سخت جگہ جہاں کچھ نہ اگے۔ سخت چیز، کہتے ہیں۔ رجُلٌ عِلْبٌ: خشک اور ظالم شخص۔ العِلْبَة جمع عِلَب: درخت کی موٹی گرہ۔ العِلباء جمع عَلاَبِی (ع ا): گردن کے پہلو کا عضلہ۔ کہتے ہیں۔ تَشَنج عِلباؤُہٗ: وہ بوڑھا ہو گیا۔

۳۔ العُلْبَة جمع عِلاب و عُلَب: چمڑے یا لکڑی کا ڈبہ وغیرہ، گتے کا ڈبہ۔ عُلْبَةُ الکتاب: کتاب کی جلد بندی کیلئے گتے یا کپڑے یا چمڑے وغیرہ پر مشتمل سامان۔

○ عَلَّبَ ہ: کو ڈبوں میں بند کرنا، کو ٹین کے ڈبے یا ڈبوں میں بند کرنا۔ کو بوتلوں، ڈبوں یا کیپسول میں محفوظ کرنا۔ عُلْبَة جمع عُلَب و عِلاب: ڈبہ، بوتل، کپی، کیس (جیسے سگریٹ کیس) ٹین کا ڈبہ، کنستر۔

علث: ۱۔ عَلَثَ ـِ عَلْثًا الشیٔ: کو جمع کرنا۔ ـــ الشیٔ بالشیٔ: کو سے ملانا کہتے ہیں۔ عَلَثَ البُرَّ بالشعیر: اس نے گیہوں جو میں ملا دیے۔ العَلَث: گیہوں وغیرہ میں ملی ہوئی وہ چیز جو نکال کر پھینک دی جاتی ہے۔ جو میں ملی ہوئی گندم۔ العُلاثة: دوسری چیزیں ملی ہوئی چیز۔ ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کرنے والا۔ العَلِیث: جو اور گیہوں کی روٹی۔ العِلثة: جو میں ملا ہوا گیہوں۔

۲۔ عَلَثَ ـِ عَلْثًا الزندُ: چقماق کا آگ نہ دینا۔ تَعَلَّثَ الشیٔ: کو اچھی طرح نہ بنانا۔ اِعْتَلَثَ: بغیر انتخاب کے کچھ لے لینا۔ ـــ زَنْدًا: درخت سے جس کے متعلق پتہ نہ ہو کہ وہ آگ دیگا یا نہیں۔ چقماق حاصل کرنا۔ العَلِث و المُعْتَلِث: بیکار تیر۔ اَعْلاَثُ الزاد: بغیر انتخاب کے کھایا جانے والا کھانا۔

۳۔ عَلِثَ ـَ عَلَثًا القومُ: آپس میں شدت سے لڑنا۔ تَعَلَّثَ بہٖ: سے چمٹنا۔

۴۔ تَعَلَّثَ لہ الذنوبَ: کی غلطیوں کے لئے عذر تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔

۵۔ العَلِث و المُعْتَلِث: جو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب ہو۔

علج: ۱۔ عَلَجَ ـُ عَلْجًا ہٗ: پر معالجہ میں غالب آنا۔ کہتے ہیں۔ عالجہ فعَلَجَہٗ: اس نے معالجہ میں اس سے مقابلہ کیا اور اس پر غالب ہوا۔ عَالَجَ مُعَالَجَةً و عِلاجًا ہٗ: کو تن وہی سے کرنا، کو بجالانا۔ ـــ المریضَ: مریض کا علاج کرنا۔ تَعَالَجَ: علاج کرنا۔ ـــ القومُ: آپس میں لڑنا۔ اِعْتَلَجَ القومُ: آپس میں لڑائی کرنا، کشتی کرنا۔ اِعْتَلَجَت الوحشُ: درندوں کا ایک دوسرے کو مارنا۔ ـــ ت الامواجُ: موجوں کا آپس میں ٹکرانا۔ اعتلجت الهُمُومُ فی صدرہ: غم اس کے سینہ میں متصادم ہوئے۔ رجُلٌ عَلْجٌ و عَلِجٌ عُلَجٌ و عُلَّجٌ: سخت کاموں کو کرنے والا۔ العِلْج جمع عُلُوج و اَعْلاج و عِلَجَة (ح): جنگلی گدھا، گدھا۔ کہتے ہیں۔ ہو عِلْجُ مال: وہ مال کے سامنے ہے العِلاج (مص) دواء، طاقت۔ دفاع۔

۲۔ عَلِجَ ـَ عَلَجًا: سخت ہونا مضبوط ہونا۔ تَعَلَّجَ الرملُ: ریت کا اکٹھی ہونا۔ اِعْتَلَجَت الارضُ: زمین کا لمبے لمبے سبزہ والی ہونا۔ ـــ الرملُ: ریت کا اکٹھا ہونا۔ اِسْتَعْلَجَ جلدُہٗ: کی کھال موٹی ہونا۔ ـــ فلانٌ: کی داڑھی نکل آنا۔ العِلج جمع عُلُوج واَعْلاَج و عِلَجَة: طاقت ور فربہ جنگلی گدھا، عجمی کافروں کا طاقت ور بڑے ڈیل ڈول والا مرد۔ بعض لوگ مطلق کافر پر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔

۳۔ العُلْجُم: لمبا اونٹ یا گدھا۔ بہت پانی والا تالاب۔ العُلْجُم: انتہائی سیاہ۔ العُلْجُوم جمع عَلاجِیم: انتہائی سیاہ، بہت کھجوروں کے درختوں والا باغ ـ سمندر کی لہر، بہت پانی، جھاڑی، لوگوں کی جماعت، رات کی تاریکی (ح) نر مینڈک (ح) مینڈھا (ح) پہاڑی بکرا (ح) بوڑھا بیل (ح) ایک سفید رنگ کا پرندہ (ح) نر بطخ (ح) نر شتر مرغ۔

○ عَالَجَ ہٗ: (مریض) کا علاج کرنا۔ ـــ ہ (بیماری) کا علاج کرنا (موضوع) پر کہنا یا لکھنا، کو پیش کرنا۔ ـــ ہ/ہ میں مشغول رہنا، میں لگا رہنا، سے وابستہ ہونا، سے برتاؤ کرنا، پر توجہ کرنا، کا رخ کرنا۔ ـــ ہ ادبی صنف) و ترقی دینا، بہتر بنانا، کو پیش کرنا، پر کچھ کہنا یا لکھنا، کو اختیار کرنا، میں حصہ لینا، کو تن دہی سے کرنا، کی کاوش کرنا، کا بوجھ یا کی ذمہ داری اٹھانا، سے گزرنا، برداشت کرنا، کڑیاں جھیلنا، کو چلانا، پر کام کرنا، کو بنانا۔ کو ٹھیک کرنا، کو سبکدستی سے چلانا یا پر سبکدستی سے کام کرنا یا اسے خوش اسلوبی سے نبٹانا، کو ہاتھ میں لینا یا سے نبٹنا، سے کام لینا۔ ـــ ہ ان: کوشش کرنا کہ، بڑی محنت اور کوشش سے کوئی کام کرنا۔ ـــ ہ: کو چھونا، پر اثر ڈالنا، پر اثر انداز ہونا، کو آمادہ کرنا۔ عَالَجَ الرمَقَ الاخیرَ: برلب مرگ ہونا، مر رہا ہونا۔ عَالَجَہٗ بطعنة: کو چھرا گھونپ دینا۔ تَعَالَجَ: زیر علاج ہونا، طبی علاج سے مستفید ہونا۔ اِعْتَلَجَ: ایک دوسرے کیساتھ کشتی لڑنا، لڑنا، جدوجہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، سخت اضطراب یا افراتفری اور بے چینی میں ہونا، چڑھنا اور اترنا ابھر کر گرنا، امنڈ آنا، کانپنا، لرزنا، تھرانا۔ عِلْج جمع عُلُوج: کافر، بے ڈول، بے ڈھنگا، بھونڈا بھدا شخص۔ گنوار، ان گھڑ۔ عِلاجی: شفا بخش، دافع مرض، معالجاتی، علاجی۔ تَعَالُج: طبی علاج۔

علد: عَلِدَ ـَ عَلَدًا: سخت ہونا، صفت عَلُدٌ: العِلْد جمع اَعْلاد: گردن کا پٹھا۔ ـــ ن نبات یا پودا، جس کے بیج ننگے رہتے ہیں۔ کچھ پھول نر اور کچھ مادہ ہوتے ہیں۔ ایک قسم بحر ابیض متوسط کے ساحلوں پر اگتی ہے۔ العَلَنْدیٰ و العُلَنْدیٰ جمع عَلاَنِد و عَلاَدی العَلَنْدد من کل شیٔ: ہر موٹی اور سخت چیز۔

علز: ۱۔ عَلِزَ ـَ عَلَزًا و عَلَزَانًا: بے چین ہونا صفت عَلِز ـ من کذا: بیمار بنا۔ اَعْلَزَہٗ: کو عاجز کرنا۔ ـــ ہُ الوجعُ: کو درد کا بے چین کر دینا۔ عَلَزُ الموت: مرنے والے کی بے چینی۔

۲۔ عَلِزَ ـَ عَلَزًا و عَلَزَانًا اِلی الشیٔ: کی طرف مائل ہونا، کا مشتاق ہونا۔

علس: عَلَسَ ـِ عَلْسًا الماءَ: پانی پینا۔ ـــ ت الابلُ: اونٹوں کو کھانے کے لئے کچھ مل جانا۔ عَلَّسَ الداءُ: بیماری کا سخت ہو جانا۔ ـــ الرجُلُ: آدمی کا شور مچانا۔ کہتے ہیں: ما علّسوہ تعلیسًا: انہوں نے اُسے کچھ نہیں کھلایا۔ العَلْس و العُلاس و العَلُوس: کھانا، خوراک۔ المُعَلَّس من الرجال: آزمودہ شخص۔

علص: عَلَّصَت التُخمَةُ فی معدتہ: بدہضمی کے سبب معدہ میں درد ہونا۔ عَالَصَ عِلاصًا ہٗ: ایک دوسرے کو مارنا۔ اِعْتَلَصَ منہ شیئًا: سے بہت ہی تھوڑی سی چیز لینا۔ العِلَّوص: بدہضمی۔ یہ لفظ صفت بھی واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں: رجُلٌ عِلَّوص: یعنی بدہضمی میں مبتلا شخص۔

علط: عَلَطَ ـِ عَلْطًا الوتدَ ونحوہٗ: کھونٹی کو

اکھیڑنے کے لئے ہلانا۔

علط: ۱۔ عَلَطَ ـُ عَلْطًا الناقۃَ: اونٹنی پر داغ لگانا۔ عَلَّطَ الناقۃَ: اونٹنی پر داغ لگانا۔ ـــ البعیرَ: اونٹ کی گردن سے پٹہ نکال دینا۔ تَعَلَّطَ القوسَ: پر تانت چڑھنا۔ اِعْلَوَّطَ البعیرَ: اونٹ کی گردن پر لٹک کر سوار ہونا۔ ـــ الامرَ: سوچے سمجھے بغیر کسی معاملہ میں تیزی سے جا گھسنا۔ العُلُط من النوق جمع اعلاط: بے مہار اور بے نشان اونٹنی، اعلاطُ الکواکب: بے نام ستارے۔ العِلاط جمع اَعْلِطَۃ و عُلُط: گردن کا پہلو، اونٹ کی گردن کی رسی، آفتاب کی شعاع۔ ـــ و الاُعْلُوط: اونٹ کی گردن کا نشان۔

۲۔ عَلَطَ ـِ عَلْطًا و عَلَّطَہٗ بشرٍّ: کی بدگوئی کرنا۔ اِعْتَلَطَ الرجلَ وبہ: سے جھگڑا کرنا۔ العِلاط جمع اَعْلِطَۃ و عُلُط: لڑائی اور جھگڑا۔

علف: ۱۔ عَلَفَ ـِ عَلْفًا الدابۃَ جانور کو چارہ دینا صفت مفعولی عَلِیف جمع عَلائِف و مَعْلُوفۃ۔ عَلَّفَ و اَعْلَفَ الدابۃَ: جانور کو چارہ دینا۔ تَعَلَّفَ: چارہ ڈھونڈنا۔ اِعْتَلَفَت الدابۃُ: جانور کا چارہ کھانا۔ اِسْتَعْلَفَت الدابۃُ: جانور کا ہنہنا کر چارہ مانگنا۔ العِلْف: بہت کھانے والا۔ العَلَف جمع عُلُوفۃ و اَعْلاف و عِلاف: چارہ۔ العَلّاف جمع عَلّافۃ: چارہ کا مالک، چارہ فروش۔ العَلُوفۃ (واحد جمع کیلئے): جانور جسے گھر پر چارہ دیا جائے اور چرنے کیلئے نہ بھیجا جائے۔ ـ جمع عُلُف: چارہ۔ العَلِیفۃ جمع عَلائِف: وہ جانور جسے چارہ کھلایا جائے چرنے کے لئے نہ بھیجا جائے۔ المَعْلَف و المِعْلَف جمع مَعالِف: چارہ کھانے کی جگہ۔

۲۔ عَلِفَ ـَ عَلَفًا الرجلُ بہت پینا۔

۳۔ عَلَّفَ و اَعْلَفَ الطلحُ: کیلے کی پھلی نکلنا۔ العُلَّف: ببول کی پھلی۔

۴۔ عَلْفَطَ الشیئَ بالشیئِ کو میں ملانا۔

○ عَلَفَ ـِ عَلْفًا ہ (مویشی کو) چارا کھلانا، کے آگے چارہ ڈالنا۔ عَلَف جمع اَعْلاف و عِلاف و عُلُوفۃ: چارا، علّاف جمع عَلّافۃ چارا فروش۔ عَلُوفۃ جمع عَلائِف جانور جسے تھان پر چارہ دیا جاتا ہو۔ جمع عُلُف: چارہ۔ مِعْلَف جمع مَعالِف: ناند (جس میں چارہ ڈالا جاتا ہے۔ کھرلی۔ مَعْلُوف وہ جانور جسے تھان پر ہی چارا دیا جاتا ہے اور موٹا کیا جاتا ہو۔

علق: ۱۔ عَلَقَ ـُ عَلْقًا و عُلُوقًا البعیرُ و نحوہ النباتَ و من النبات: اونٹ وغیرہ کا پودے یا سبزی کو اوپر اوپر سے چرنا۔ ـ الصبیُّ: بچہ کا انگلیاں چوسنا۔ عَلِقَ ـَ عَلَقَت الابلُ فی الوادی: اونٹوں کا وادی میں چرنے کیلئے جانا۔ العَلَق (واحد عَلَقَۃ): درخت کا وہ حصہ جہاں چوپائے پہنچ سکیں۔ العُلْقَۃ جمع عُلَق: درخت کا وہ حصہ جسے چوپائے کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے جس چیز سے دل بہلایا جائے۔ تھوڑی چیز۔ کہتے ہیں: لم یبْقَ عندہ عُلْقَۃٌ: اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ المِعْلاق: درخت کا وہ حصہ جہاں تک چوپایوں کی رسائی ہو سکے۔ کھانے سے پہلے وہ چیز جس سے دل بہلایا جائے۔ العَلاقَۃ جمع عَلائِق: گزر بسر کا ذریعہ۔

۲۔ عَلَقَ ـُ عَلْقًا الرجلَ: کو گالی دینا۔ و ـ ہٗ بلسانہ: کو بدگوئی کے ذریعہ تکلیف پہنچانا۔ العَلاقۃ جمع عَلائِق: دشمنی۔ المِعْلاق جمع مَعالِیق: زبان۔ رجلٌ مِعْلاقٌ: جھگڑالو۔

۳۔ عَلِقَ ـَ عُلُوقًا الوحشُ بالحبالۃ: وحشی جانور کا جال میں پھنس جانا۔ ـــ ت المرأۃُ وکلُّ انثی بالولد: عورت یا ہر مادہ کا حاملہ ہونا۔ ـــ ت الدابۃُ: جانور کو پانی پیتے ہوئے جونک کا چمٹ جانا۔ ـ الشوکُ بالثوب: کپڑے میں کانٹا لگ جانا۔ ـــ عِلْقًا امرَہٗ: کو جان لینا۔ ـــ یفعل کذا: کچھ کرنے لگنا۔ عُلِقَ الرجلُ: کے گلے میں جونک لگ جانا صفت مَعْلُوق۔ عَلَّقَ الشیئَ بالشیئِ و علیہ و منہ: چیز کو چیز کے ساتھ، یا اس پر یا اس سے لٹکانا۔ ـــ الامرَ: سے چمٹنا۔ ـــ للدابۃِ: جانور کو چارہ دینا۔ ـــ بابًا علی دارہ: گھر میں دروازہ لگانا۔ ـــ البابَ دروازہ بند کرنا۔ اَعْلَقَ القوسَ: کمان لٹکانے کے لئے تسمہ بنانا۔ ـ الصائدُ: شکاری کے جال میں شکار کا پھنسنا۔ ـــ الرجلُ خون چوسنے کیلئے جونک لگانا۔ ـ ظفرَہٗ بالشیئِ: کسی چیز کو ناخن چبھونا۔ ـ الشیئَ بالشیئِ: کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ لٹکانا۔ تَعَلَّقَ الشیئَ کو لٹکانا۔ الشوکُ بالثوب او الصیدُ بالحبالۃ: کانٹے کا کپڑے میں الجھنا، شکار کا جال میں پھنسنا۔ العَلَق (مص جمع اَعْلاق و عُلُوق: کپڑے میں سوراخ کہتے ہیں: فی ثوبہ عَلَقٌ: اس کے کپڑے میں کسی چیز کے الجھنے سے پھٹن ہے۔ العِلْق (مص جمع اَعْلاق و عُلُوق) بمعنی عَلَق۔ العُلُق: اشغال، موتیں۔ العَلَق مص (واحد عَلَقَۃ): خون (ح) جونک، ہاتھ سے چمٹنے والی مٹی۔ العِلْقَۃ: قسم، نوع۔ العَلاقۃ جمع عَلائِق: موت، مال و دولت، بیوی، اولاد کا تعلق، رفتہ کہتے ہیں: ما بینہما عَلاقۃ ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں۔

العِلاقۃ جمع عَلائِق: ہانڈی وغیرہ لٹکانے کی چیز، کہتے ہیں: عِلاقۃ السیف و السوط و القوس: تلوار، کوڑے، کمان کا تسمہ۔ درخت پر لٹکتا ہوا پھل۔ ذٰو عُلْ العَلُوق: جس کا انسان سے تعلق ہو۔ بہت چمٹنے والا۔ موت، مصیبت۔ العَلِیق: جانور کا چارہ جیسے جو وغیرہ۔ العُلَّیق و العُلَّیقَی (ن) خاردار جھاڑی، جھاڑبیری، جھاڑ، رس بھری۔ التَعْلِیقَۃ جمع تَعالِیق: حاشیہ کتاب۔ المُعَلَّقَۃ: مُعَلَّق کا مونث، وہ عورت جس کا شوہر لاپتہ ہو گیا ہو اور نہ شادی شدہ ہو اور نہ مطلقہ۔ المُعَلَّقات: زمانہ جاہلیت کے سات قصیدے، جن کو کعبہ میں لٹکایا گیا تھا۔ المِعْلَق: وہ پیالہ جس کو سوار اپنے ساتھ لٹکائے رکھتا ہے۔ المِعْلاق جمع مَعالِیق: ہر وہ چیز جس سے لٹکایا جائے۔ ذبح شدہ جانور کے پھیپھڑے، جگر اور دل۔ (عام زبان میں)۔ فصیح لفظ سُحارَہ ہے۔

۴۔ عَلِقَ ـَ عُلُوقًا و عِلْقًا و عَلَقًا و عَلاقَۃً فلانًا و عَلِقَ بہ: سے محبت کرنا۔ ـــ حُبُّہٗ بقلبہ: سے محبت کرنا، کہتے ہیں: عَلِقَ منہ کلَّ مُعَلَّقٍ: اس نے اس سے محبت کی اور محبت دل کے پردوں میں داخل ہو گئی۔ عَلِقَ مَعالِیقَہٗ: وہ اپنے مقام میں واقع ہوا۔ عُلِّقَ ہٗ: کی طرف کے دل کا مائل ہونا۔ تَعَلَّقَ و اِعْتَلَقَ فلانًا و بہ: سے محبت کرنا۔ العَلَق و العِلْق جمع اَعْلاق و عُلُوق: ہر نفیس چیز، کہتے ہیں: ہو عِلْقُ عِلْمٍ: وہ علم کا شائق ہے اور اس کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ العِلْقَۃ: بہترین کپڑا۔ العُلْقَۃ جمع عُلَق: تعلق کہتے ہیں۔ لی فی ہذا المال عُلْقَۃٌ: مجھے اس مال سے تعلق ہے۔ العَلاقَۃ (مص) عَلائِق دوستی، ربط، محبت کہتے ہیں: لِی فی ہذا عَلاقَۃٌ: مجھے اس سے تعلق ہے۔

۵۔ عَلِقَ ـَ عُلُوقًا و عِلْقًا و عَلَقًا و عَلاقَۃً دمَ فلانٍ کو قتل کرنا۔

۶۔ العُلَق: بہت یا کثیر جماعت۔ العِلْقَۃ بغیر آستینوں کی قمیض۔

۷۔ عَلْقَمَ الشیئُ کڑوا ہونا۔ ـــ الطعامَ کھانے میں کڑوی چیز ملانا۔ العَلْقَم (ن) اندرائن، حنظل، ہر کڑوی چیز۔

○ عَلِقَ ـَ عَلَقًا: لٹکنا، ـ ب: سے چمٹنا، چپکنا، چسپاں ہونا، ـ ب: کا رائج ہونا، چل نکلنا، ـــ فی کو لگنا۔ ـــ ب / فی: میں پھنس جانا، ـــ ب: سے منسلک ہونا، پر چسپاں ہونا، چپکنا، لگنا ـــ عُلُوقًا و عَلاقَۃً ب کے ساتھ ہونا، رہنا، سے وابستہ ہونا، کیلئے مخصوص ہونا،

کیلئے وقف ہونا، کا شائق ہونا۔ عَلِقَ یفعل: کرنا شروع کرنا، کرتے رہنا۔ عَلِقَت عُلوقًا جورت کا حاملہ ہوجانا۔ عَلّقَ ہ علی/ ب: کو پر لٹکانا۔ — ہ علی/ ب کو سے منسلک کرنا، جوڑنا، لگانا، باندھنا۔ — ہ کو فیصلہ کے بغیر چھوڑ دینا، ملتوی رکھنا، کو التوا میں رکھنا۔ — ہ ب/ علی کو سے مشروط کرنا، کو پر منحصر کرنا، سے وابستہ کرنا۔ — علی پر تبصرہ کرنا، تنقید کرنا، کی شرح لکھنا یا کی شرح کرنا، کی فرہنگ لکھنا، پر حاشیہ چڑھانا، کی تشریح کرنا، پر نوٹ لکھنا، کی تفسیر کرنا، کے بارے میں نوٹ لکھنا۔ — ہ کی یادداشت قلمبند کرنا، جلدی سے کچھ لکھنا۔ عَلّقَ الآمال علی سے امیدیں وابستہ کرنا۔ عَلّقَ اَھمیّۃً (خطورۃً) علی کو اہمیت دینا۔ اَعْلَقَ ہ ب کو پر لٹکانا، کو سے منسلک کرنا، جوڑنا، باندھنا۔ — جونکیں لگانا۔ تَعَلّقَ ب سے لٹکنا، سے چمٹنا، چپکنا، پر چسپاں ہونا، کے ساتھ رہنا، سے وفاداری کرنا، سے چمٹا رہنا، کو تھامے رہنا، سے منسلک ہونا، سے وابستہ ہونا، کیلئے مخصوص ہونا، وقف ہونا، کا شائق ہونا۔ —علی/ ب: پر بھروسہ کرنا، پر منحصر ہونا، یا سے مشروط ہونا، سے متعلق ہونا، کا رکن ہونا، سے وابستہ ہونا، سے تعلق رکھنا۔ تَعَلّقَ بحبہ: کا دلدادہ ہونا، سے پیار کرنا، محبت کرنا، سے دلی طور پر وابستہ ہونا۔ فیما یتعلق ب: کے متعلق، کے بارے میں جہاں تک اس کا تعلق ہے۔ عِلْق و عَلَق جمع اعلاق: بیش قیمت، گراں بہا، قیمتی چیز، قدر وقیمت والی چیز۔ عَلَق (اسم جنس واحد عَلَقۃ) جمع عَلَقات: جونک، طبی جونک، (منجمد) خون، خون کا منجمد قطرہ، عَلَقۃ: زدوکوب، مار پیٹ، شاندار، عمدہ۔ عَلیق جمع عَلائِق: چارا، علاق کوٹ ٹانگنے کا ہینگر۔ عَلاقۃ: تعلق، وقف، شدید الفت، جانثاری، محبت، چاہ، لگن، پیار، بندھن، رشتہ، ربط، واسطہ۔ — ب: سے الحاق، شرکت، سے ربط، اتصال، تعلق، سے رشتہ۔ العلاقات العامۃ: تعلقات عامہ Public relations ذو علاقۃ ب: سے متعلق۔ السلطات ذات العلاقۃ: مجاز حکام۔ قَطعُ العلاقات (العلائق): تعلقات کا انقطاع۔ توَتُّرُ العلاقات (العلائق): تعلقات کی کشیدگی۔ عِلاقۃ جمع عَلائِق: چمڑے کا تسمہ، فیتہ، تسمہ، فیتہ، جس سے کوئی چیز لٹکائی جائے۔ علاقۃ کوٹ ٹانگنے کا ہینگر۔ اعلق بالذھن: جس کی طرف ذہن زیادہ مائل ہو۔ مِعْلاق جمع معالیق: (جانور کے) اعضاء رئیسہ جیسے دل، جگر، پھیپھڑے وغیرہ۔ تعلیق: لٹکانا، عارضی قیام، معافی یا منسوخی، التواء، تعلیق، تعویق، تاخیر، تعطل، معطلی، علامت تخمیر (Oblique) جمع تعلیقات و تعالیق: شرح، تفسیر، تنقید، تبصرہ، توضیحی ریمارکس، لٹکتا ہوا لیمپ۔ تعلیق الطلاق: مشروط قطع تعلق، مشروط اعلان طلاق۔ تعلیق علی الانباء: خبرنامہ۔ تَعْلیقۃ جمع تعلیقات و تعالیق: حاشیہ، شرح، نوٹ۔ مُعَلِّق کمنٹری والا۔ شارح (ریڈیو، پریس)۔ مُعَلَّق ب/ علی: پر منحصر، سے مشروط۔ جسرٌ مُعَلّق: لٹکتا پل، معلق پل Suspension bridge۔ مسائل مُعَلّقۃ: زیر غور مسائل Pending questions۔ رغبتہ مُعَلّقۃ ب: اس کی خواہش کا رخ کی جانب ہے۔ مُعَلَّقۃ جمع مُعَلَّقات: بڑا اشتہار، اٹھایا ہوا اشتہار، Placard، پوسٹر، اشتہار۔ من متعلقاتہ: پر منحصر، کے اختیار سے متعلق۔ ذاقَ العَلْقَمَ مِن: سے پریشانی اٹھانا، سے تلخی میں مبتلا ہونا۔ سے اذیت پانا، کی حیلہ بازیاں یا پرفریب استدلال جھیلنا۔

عَلَک: ۱۔ عَلَکَ ـُ عَلْکًا العِلْکَ ونحوہٗ: مصطگی وغیرہ چبانا۔ — نابیہ: دانت پیسنا۔ عَلّکَ الجلد: کھال کو اچھی دباغت دینا۔ العِلْک جمع عُلوک و اَعْلاک: ہر چبائی جانے والی گوند۔ مصطگی۔ العِلْکۃ: مصطگی کا ایک ٹکڑا۔ العَلِک: ہاتھ وغیرہ سے چمٹ جانیوالی چیز۔ العُلاک والعَلاک: چبائی جانے والی چیز۔ العَلّاک: بہت چبانے والا، گوند بیچنے والا، مصطگی فروش۔

۲۔ عَلَکَ یدیہ علی مالِہ: بخل کی وجہ سے ہاتھ روک لینا۔

○ عَلَکَ ـُ عَلْکًا ہ کوئی چیز چبانا، چابنا۔ — اللجامَ: (گھوڑے کا) اپنی لگام کا دھانہ چابنا یا چپڑ چپڑ چبانا۔

علم: ۱۔ عَلَمَ ـِ عَلْمًا ہ: پر نشان لگانا۔ عَلَّمَ لہٗ علامۃً: کی پہچان کے لئے علامت لگانا، پر پہچان کا نشان لگانا۔ اَعْلَمَ الفرسَ: جنگ میں گھوڑے پر رنگی ہوئی اون کا نشان لگانا۔ — الثوبَ: کپڑے پر نشان بنانا، نقش ونگار بنانا۔ — نفسہٗ: اپنے آپ پر لڑائی کی علامت لگانا۔ — علی کذا من الکتاب وغیرہ: کتاب وغیرہ پر نشان لگانا۔ اِعْتَلَمَ البرقُ: پہاڑ میں آسمانی بجلی کا چمکنا۔ العَلَم جمع اَعْلام: کپڑے کا نشان اور نمبر، جھنڈا، نیزہ پر باندھی جانے والی چیز، سردار قوم — جمع اَعْلام و عِلام: نشان راہ، نشان قدم، منارہ، اونچا یا لمبا پہاڑ۔ العَلامۃ جمع عَلام و عَلامات: نشان، نشان راہ جمع کا نشان (+)۔ تفریق کا نشان (-)۔ الاُعْلوم جمع اعالیم: علامت۔ المَعْلَم جمع مَعالِم: راستہ کا نشان۔ مَعْلَمُ الشیء: چیز کے پائے جانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ خَفِیَتْ مَعالِمُ الطریق: راستہ کی نشانیاں چھپ گئیں۔

۲۔ عَلِمَ ـَ عِلْمًا الرجلُ: حقیقت علم کو پالینا۔ — الشیءَ: کو پہچاننا، کا یقین کرنا۔ — الشیءَ و بہٖ: کو جاننا، کا ادراک کرنا۔ — الامرَ: کو مکمل کرنا۔ عَلَّمَ تعلیمًا و عِلّامًا ہ الصنعۃَ وغیرھا: کو کوئی کام وغیرہ سکھانا۔ عالَمَہٗ فعَلَمَہٗ: کا علم میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا، سے زیادہ علم والا ہونا۔ اَعْلَمَہٗ الامرَ و بالامر: کو سے مطلع کرنا۔ تَعَلَّمَ: سیکھنا۔ کہتے ہیں۔ عَلَّمْتُہٗ فتعَلَّمَ: میں نے اسے سکھایا اور وہ سیکھ گیا۔ — الامرَ: میں ماہر ہونا، کو مکمل کرنا۔ تَعَلَّمْ (امر کے صیغہ میں): اِعْلَمْ کے معنی میں ہے جو ظَنَّ کی اخوات (معنی میں متشابہ الفاظ) سے ہے۔ تَعالَمَ القومُ الشیءَ: کو جاننا۔ اِعْتَلَمَ الشیءَ: کو جاننا۔ اِسْتَعْلَمَہٗ الخبرَ: سے خبر دریافت کرنا۔ العِلْم (مص) جمع عُلوم: حقیقت شئے کا ادراک، یقین، معرفت۔ العِلْم التعلیمی: علم ریاضی جیسے حساب، مساحت، موسیقی، عِلْمُ التنجیم او عِلْمُ النجوم: نجوم، جوتش۔ العِلْمُ العملی: عملی علم جو کام کی کیفیت سے متعلق ہے، جس میں فنون وعلوم اور اس کے مبادی کے قواعد کی تطبیق کی جاتی ہے۔ عِلْمُ الفلک: علم ہیئت، فلکیات، ہیئت افلاک، ہیئت۔ العِلْمُ اللَّدُنّی: اللہ تعالیٰ سے کسی واسطہ کے بغیر بذریعہ وحی سیکھا ہوا علم۔ العلم النظری: علم عملی کا الٹ، جو کام کی کیفیت سے متعلق نہیں ہوتا۔ العُلومُ المُدَوَّنۃ: کتابوں میں لکھے ہوئے علوم۔ العلومُ المتعارفۃ: علوم مُدَوّنہ میں واضح مقدمات۔ العلومُ الآلیۃ: دوسرے علوم کے حصول کا آلہ جیسے علم منطق۔ العلوم العربیۃ: عربی زبان سے متعلق علوم جیسے صرف، نحو، معانی بیان، یہ علم الادب کہلاتے ہیں۔ العلوم الشرعیۃ: علوم مُدَوّنہ جن میں عملی اور اعتقادی شرعی احکام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ انہیں دینی علوم بھی کہا جاتا ہے جیسے علم الکلام اور فقہ۔ العلوم الحقیقیۃ: وہ علوم جو ملتوں، ادیان کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتے جیسے علم کلام اور علم منطق۔ العلوم الالٰھیۃ: وہ علوم جو مطلق ہستی سے جیسے وہ ہے اور غیر مادی امور سے بحث کرتے ہیں جیسے واجب، ممکن، علت و معلول۔ ان میں ارواح، اللہ تعالیٰ پر بحث بھی شامل ہے۔ یہ علم علم اعلیٰ و فلسفہ اولیٰ اور مابعد الطبیعت کا علم کہلاتا ہے۔ علم النفس: نفسیات (سائیکولوجی)۔ علم طبقات الارض:

ارضیات (Geology) علم الحیاۃ: حیاتیات
(Biology)۔ علم الاجتماع: عمرانیات
(Sociology)۔ علمُ وظائفِ البدن: علم
اعضاء، عضویات (Physology) علم اعضاء
البدن: علم اعضائے جسم۔ العَالِم (فا) جمع عُلّام
وعَالِمون و العلیم جمع عُلَماء: موصوف بالعلم،
صاحب علم۔ العَلّام و العُلّام و العَلّامۃ و
التِعلامۃ: بہت زیادہ جاننے والا، بڑا عالم۔ الاَعْلَم
م عَلْمَاء جمع عُلم: اسم تفضیل۔ اللّٰہ اَعْلَمُ: سب
جاننے والوں سے زیادہ جاننے والا۔ اِعْلامُ الحُکمُ
جمع اِعْلامات: دعوی میں جج کے حکم کی نقل۔ المَعْلُوم
(مفعول): معلوم معروف۔ جمع مَعَالِیمُ و معلومات:
فیس، پیشہ ورانہ خدمات کی اجرت۔ المَعْلُومِیَۃ:
پیشہ ورانہ خدمات کی اجرت یا فیس کے متعلق۔

۳- عَلَمَ ـِ عَلْمًا الشفۃَ: ہونٹ چیرنا۔ عَلِمَ ـَ عَلَمًا:
کا اوپر کا ہونٹ پھٹنا۔ صفت۔ اَعْلَم۔ الاَعْلَم م
عَلْماء جمع عُلْم: وہ شخص جس کا اوپر کا ہونٹ پھٹا
ہوا ہو۔ العُلْمۃ و العَلَمَۃ: اوپر کے ہونٹ کی پھٹن۔

۴- اِعْتَلَمَ الماءُ: پانی کا بہنا۔ العَیْلَم: بہت پانی والا
کنواں، سمندر۔

۵- عَلاَمَ: (علی حرف جر اور ما استفہامیۃ سے مرکب
ہے۔ الف حذف کر دیا گیا ہے) کس پر؟ العَالَم جمع
عَوَالِم و عَالَمُون و عَلالِم: ساری مخلوق۔
العَلْم: عالَم۔ العَلْمانی: غیر ملا، غیر پادری۔ دنیا
دار، غیر ماہر، باقاعدہ علم نہ رکھنے والا۔ العَلْماء: زرہ
بکتر۔ العُلام و العُلّام (ح): شکرہ باز۔ ــــ
العُلامِیّ: سبک روح، تیز فہم۔ العَیْلام جمع عَیَالِم
(ح): نر بجو۔ العَیْلَم جمع عَیَالِم (ج): نر بجو۔
(ح): مینڈک۔

۶- العِلْماد و العِلْماد جمع عَلامِدَۃ و عَلامِید: جس پر
دھاگے کا گولہ بنایا جائے۔ سلائی دار پولی۔

ت عَلِمَ ـَ عِلْمًا ہ / ب کو جاننا۔ ـــ ہ / ب کا علم
رکھنا۔ سے آگاہ ہونا، باخبر ہونا، واقف ہونا، سے مطلع
ہونا، کو دیکھ لینا، سمجھ لینا، (بصارت یا بصیرت سے) کو
صاف صاف دیکھ لینا۔ ـــ ہ / ب مِن ـــ کے بارے
میں معلوم کرنا، دریافت کرنا۔ ـــ ہ مِن کا سے امتیاز
کرنا، کے درمیان فرق کرنا۔ ـ عَلَّمَ ہ بیا ـ ہ ہ:
کو کچھ سکھانا، کو کی تعلیم دینا، کو کے بارے میں بریف
کرنا، (آخری ہدایات یا اطلاع دینا)۔ ـــ ہ کو تعلیم
دینا، کو ٹریننگ دینا۔ ـــ علی پر مخصوص نشان لگانا
کو الگ کرنا، اَعْلَمَ ہ / ب کو سے مطلع کرنا، کو کی
اطلاع دینا، کو کے بارے میں آگاہ کرنا، کو کے بارے
میں بتانا، کو سے واقف کرنا۔ تَعَلَّمَ ہ کو سیکھنا، کو معلوم
ہونا، کا مطالعہ کرنا، کو پڑھنا۔ اِسْتَعْلَمَ ہ / عن:
سے کے بارے میں پوچھنا، دریافت کرنا، کے ذریعے
کے بارے میں مطلع ہونا، سے کے بارے
میں معلومات جمع کرنا۔ عِلْم: علم، جاننا، علم ہونا،
سیکھنا، آگاہی، واقفیت، شناسائی، اطلاع، ادراک۔ جمع
علوم: سائنس۔ العلوم الطبیعی: طبیعی علوم (Natural
Sciences) عِلْمًا و عَمَلاً: نظری یا نظریاتی طور پر
اور عملی طور پر (Theoratically
andpractically)۔ لیکُن فی علمہ: اسے
معلوم ہو، اس کے علم میں آئے، اس کی اطلاع کیلئے۔
کان علی علم تام ب: سے پوری طرح واقف
ہونا، کا پورا پورا علم رکھنا، کی مکمل واقفیت رکھنا۔ علمُ
الجراثیم: علم جراثیم، جرثومیات، جراثیمیات۔
(Bacteriology)۔ علم الحساب: حساب
Arithmetic۔ علم الحیاۃ و علم الاحیاء:
حیاتیات (Biolgy) علمُ الحیوان: حیوانیات
(Zoology)۔ علم الاخلاق: علم اخلاق،
اخلاقیات (Ethics)۔ علمُ الذرات: جوہری
طبیعیات Nuclear Physics ۔ علمُ التربیۃ:
معلّمی (Peda gogy)۔ علمُ الصحۃ: حفظان
صحت۔ (hygiene)۔ علم الاصوات:
صوتیات Phonetics۔ علم المعادن:
معدنیات Minerclogy۔ علمُ اللغۃ: لغت
نویسی Lexicography۔ علم النباتات: علم
نباتات۔ نباتیات (Botany) علم النفس:
نفسیات (Psychology)۔ علم وظائف
الاعضاء: علم اعضاء عضویات Physiolygy۔
طالبُ علم: طالب علم۔ کلیۃ العلوم: مصری
یونیورسٹی کا شعبہ سائنس۔ علمی: سائنٹیفک، سائنسی،
یا عالمانہ (کتاب) علمی (سوسائٹی)۔ عَلَم جمع اَعْلام:
نشان۔ علامت، بلا (Badge)۔ امتیازی نشان،
خصوصیت، وصف، نشان راہ، رہنما کھمبا، رہنما ہتھا
(Guide post)۔ جھنڈا، ممتاز اور نمایاں شخص، ممتاز
شخصیت، سند، ماہر، اتھارٹی (Authority): ایک
ستارہ، مشہور شخصیت، اسم معرفہ۔ اشہر من نار
علی عَلَم: بہت مشہور۔ اسمُ عَلَم: اسم معرفہ
(Propername) جمع اسماء الاعلام۔ علم
الوصول: رسید (Receipt)۔ عَالَم جمع عَالَمُون
و عوالم: دنیا، کائنات، کون و مکان، کارخانہ قدرت۔
العَالَمان: دو دنیائیں (یورپ اور امریکا) عالَمون:
لوگ، دنیا والے۔ خصوصاً انسان عالم الحیوان:
مملکت حیوانات، عالَم المعادن: دنیائے معدنیات۔
عالم النبات: دنیائے نباتات۔ عالمُ الوجود:
یہ دنیا، یہ زندگی، عالَمی: دنیاوی، دنیوی، لادینی،
غیر مذہبی۔ عالَمی: بین الاقوامی۔ عالمگیر، عالمی
شہرت یافتہ، مشہور عالم۔ عالَمیّۃ: بین الاقوامیت،
عالمگیریت۔ عَلْمانی و عالَمانی: دنیادار، دنیا
دارانہ، غیر ماہر، اناڑی، غیر ماہرانہ، اناڑیوں کا سا، جمع
علمانیون، عالمانیون: غیر ملا، غیر پادری، دنیادار۔
عَلِیم جمع عُلَماء: جاننے والا، واقف، مطلع، عالم فاضل۔
العَلِیم: خدائے علیم و بصیر (the Omniscient)
عَلّام: پوری طرح جاننے والا، مکمل واقف۔ عَلّامہ:
بہت عالم فاضل، بہت عالم۔ عَلامۃ جمع عَلامات
و علائم: نشان، رمز، نشانی، بیج (Badge)۔ علامت،
ڈھال پر نشان، امتیازی نشان۔ خصوصیت، وصف،
دلیل، بیماری کی علامت، عرض Symptom۔
علامۃً ھذا: اس کی نشانی کے طور پر، اس کی علامت
کے طور پر، علامۃ تجاریۃ: ٹریڈ مارک (Trade
mark)۔ علامۃُ الرتبۃ: عہدے کا نشان
(Insignia of rank)۔ فُجائیۃ: فجائی علامت
علامۃ الاستفہام: سوالیہ نشان (؟)۔ علامۃ
التنصیص: واوین (علامت اقتباس)۔ تِعْلامۃ:
بہت عالم فاضل۔ مَعْلَم جمع مَعَالِم: جگہ،
مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، علاقہ مقام جگہ، راہ، آثار،
جھلک، سنگ میل (Land mark)۔ نشان،
امتیازی نشان، خصوصیت، وصف، سڑک کا نشان،
رہنما کھمبا، رہنما ہتھا۔ (جمع): قابل دید مقامات،
نوادر، طرہ ہائے امتیاز، امتیازی اوصاف (جسم) کے
نشیب و فراز، اہم نکات، چہرہ مہرہ، خدوخال، شکل و
صورت۔ مَعْلَمۃ جمع مَعْلَمات: انسائیکلوپیڈیا
(Encylopedia)۔ تعلیم جمع تعلیمات و
تعالیم: اطلاع، ہدایت، تعلیم، معارف، تربیت،
سکول کی تعلیم Schooling. کار آموزی
(Apprenticeship) جمع تعلیمات:
ہدایات، ہدایت نامہ، اطلاع، معلومات، اطلاعات،
تعلیم مختلط: مخلوط تعلیم (co education)۔
تعلیم عالی: اعلی تعلیم higher education۔
جامعاتی حصول تعلیم میں مصروفیت (Academic
studies) مراقب تعلیم: ماسٹر سرجنٹ
(Master sergeant)۔ صَولُ تعلیم: ماسٹر

سرجنٹ۔ فنُ التعلیم: معلّمی Peadagogy۔فن تعلیم۔ اِعــــلام: اعلان، ہدایت، اطلاع، نوٹس (Notice)۔ مکتبُ الاستعلامات: دفتر اطلاعات، خبررساں ایجنسی، پریس ایجنسی، عــالِم: جاننے والا، واقف۔ ــ ب: سے واقف، آگاہ۔ـــ: ماہر، صاحب نظر، دقیقہ شناس، مبصر نکتہ رس نقاد، صاحب ذوق (جمع علماء): عالم فاضل، عالم، متبحر عالم، علامہ، سائنس دان، عــالـم طبیعی: ماہر طبیعیات (Physicist)، طبیعی سائنسدان۔ الـعـلـماء المُختصُّون: متخصص علماء، سپیشلسٹ علماء، ماہرین۔ عَالِمیّة: علمیت، علمی فضیلت، علم وفضل، تبحر علمی، عالم کا رتبہ، یا عظمت، علم وفضل کا رتبہ جو تیونس کی جامع کبیر اور قاہرہ کی الاظہر کی طرف سے ڈپلوما کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ اَعْلَم: زیادہ جاننے والا، زیادہ عالم وفاضل۔ اللّٰــہ اَعْلَم: اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ مَعْلُوم: جانا ہوا، مقررہ، دیا ہوا۔ معلوم، یقیناً، لازماً، قدرتی بات ہے، بے شک، ضرور، بالضرور، معلوم مقدار (علم حساب میں) الـمعلوم: فعل معروف۔ جمع مَعَالِیم: مقررہ رقم، مقررہ نرخ، مقررہ آمدنی، ٹیکس، محصول، فیس، رقم، خرچ، صرف، مصارف، خرچہ (عدالت)۔ معـلـومُ الـحیوانات: ڈھورڈنگر مال مویشی کا محصول۔ (جمع) مــعـلـومـات: علم، معرفت، معلومات، ادراکات، انکشافات، دریافتیں، (عدالت کا) فیصلہ (Findings) معلوم حقائق، اطلاع امور معلومہ (Data): خبریں (News, tidings): مُـعَـلِّـم: ٹیچر، انسٹرکٹر، کاریگر، استاد۔ مُعَلِّمُ الاعتراف توبہ کرانے یا اعتراف گناہ سننے والا پادری۔ مُعَلِّمـہ: مُعَلِّم کا مونث۔ مُعَلَّم: سکھایا ہوا، پڑھایا ہوا، ہدایت دیا ہوا، تربیت دیا ہوا، سکول میں تعلیم دیا ہوا، مُعَلَّم علیہ: نشان زدہ۔ مُعَلَّم علیہ بالاحمر: جس پر سرخ پنسل سے نشان لگایا گیا ہو۔ مُتَعَلِّم: تعلیم یافتہ، کار آموز، پڑھا لکھا، پڑھنے والا، سیکھنے والا۔

علن: عَلَنَ ـِ وعَلُنَ ـُ وعَلِنَ ـَ عَلَنًا و عَلَانِيَةً و عُلُونًا و اعْتَلَنَ الامرُ: ظاہر ہونا، صفت عَالِن وعَلِن وعَلِین۔ عَلَّنَ الیہ الامرَ: کو پر ظاہر کرنا۔ عَالَنَ مُعَالَنَةً وعِلانًا العداوۃَ وبالعداوۃ: کھلم کھلا دشمنی ظاہر کرنا۔ ــ و أَعْلَنَ ہُ الامرَ وبالأمر: کو پر ظاہر کرنا۔ اِسْتَعْلَنَ الامرُ: ظاہر ہونا، ظاہر ہونے کے درپے ہونا۔ الـعَلَانِیَة (مص): کھلم کھلا، نشر واشاعت کہتے ہیں: رجُلٌ عَلانِیَةٌ جمع عَلَانُون: جس کا معاملہ ظاہر ہوا۔ کھلم کھلا کام کرنے والا۔

العَلَانِی جمع علانِیُون: بمعنی رجلٌ علانِیة۔ العُلُنَة: جو راز نہ چھپائے۔ الاعلان جمع اعلانات: اشتہار (خواہ اخباروں میں شائع ہو یا دیواروں پر لگایا جائے یا تقسیم کیا جائے۔)

عَلَنَ ـُ وعَلُنَ ـُ عَلانیةً: معلوم ہونا یا ہو جانا، واضح یا ظاہر یا آشکار ہونا یا ہو جانا، بدیہی یا بین ہونا یا ہو جانا۔ عَالَنَ ہ ب: کے علم میں کوئی بات لانا، پر کا انکشاف کرنا، پر کو ظاہر کرنا، افشا کرنا۔ اَعْلَنَ ہ: کو واضح کرنا، کا انکشاف کرنا، کو ظاہر کرنا، کا اعلان کرنا، کی نشر و اشاعت کرنا، کو شائع کرنا، کے نفاذ کا اعلان کرنا، کا سرکاری طور پر باقاعدہ اعلان کرنا۔ ـــ اِلی ہ: کو صاف صاف کوئی بات بتانا۔ ـ أن: اعلان کرنا کہ ـ الی: کو سمن جاری کرنا۔ عن: کا نوٹس دینا۔ ـ عن: کا (اخبار میں) اشتہار دینا، کو (اخبار میں) مشتہر کرنا۔ ـ عـــن: کو دکھانا، کو بتانا، ظاہر کرنا، کا اشارہ کرنا، کا راز افشا کرنا۔ اعلن الحرب علیہ: کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا۔ اعتلن بمعنی عَلَنَ: اِسْتَعْلَنَ بمعنی عَلَنَ نیز اِسْتَعْلَنَ ہ: کا انکشاف کرنے کی کوشش کرنا، کو ظاہر کرنا۔ عَلَنًا: کھلم کھلا، کھلے بندوں، صاف صاف، صاف گوئی سے، علی الاعلان۔ عَلَنی: کھلم کھلا، صاف، عام، عَلِن: کھلم کھلا، صاف واضح عام۔ علانیة: صاف گوئی، علی الاعلانیت۔ عَلَانِیَةً: بمعنی عَلَنًا: اِعلان جمع اعلانات: اشاعت، نفاذ کا اعلان، نفاذ، اظہار، انکشاف، باضابطہ اعلان، اعلان، بیان، نوٹس Notice، اشتہار۔ ـ عن: کیلئے اشتہار بازی، پوسٹر، چسپاں اشتہار، دیواری اشتہار، اٹھایا ہوا اشتہار۔ اعلان حضور: سمن۔ اعلان الحرب: اعلان جنگ۔ اعلان عدم الثقة: بعدم اعتماد کا ووٹ۔ اعلانات مُبَوَّبَة: قسم وار اشتہارات classified advertisements۔ اعلانات ضَوئِیة: برقی اشارے۔ مُعْلِن: اعلان کرنے والا (اناؤنسر) صاحب تقریبات (Master of ceremonies) مُعْلَن الیہ: جسے بذریعہ سمن عدالت میں طلب کیا گیا ہو۔

علہ: ا۔ عَلِہَ ـَ عَلَهًا: منہمک ہونا، متحیر ہونا، خوفزدہ ہونا، قابل ملامت ہونا، گھبراہٹ میں آنا جانا۔ الـعَالِـہ (ح): شتر مرغ۔ العَلِہ: متحیر ہو کر آنے جانے والا۔ العَلَہ: حزن۔ غم۔

۲۔ عَلِہَ ـَ عَلَهًا: بھوکا ہونا۔

۳۔ عَلِہَ ـَ عَلَهًا: بدفطرت ہونا۔ صفت عَلْہان م عَلْہی جمع عِلاہ وعَلاہی۔ العَلِہ: شرارت پسند۔ العَلَہ (مص) برائی۔ العَالِہ: ایک راستہ پر نہ چلنے والی عورت۔

علا: ا۔ عَلا ـُ عُلُوًّا الشیُ او النہارُ: (چیز کا) بلند ہونا، (دن) کا چڑھنا۔ ـ الرجُلَ: پر غالب ہونا۔ ـ ہُ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ ـــ الامرَ ولہ: کی طاقت رکھنا، کو کر سکنا۔ صفت عالٍ لہ ـــ المکانَ وبہ: پر چڑھنا۔ ـــ بالامر: میں منفرد ہونا، کو کرنے کا قابل کرنا۔ ـ الدابةَ: جانور پر سوار ہونا۔ ـ قِرنَہ: ہمسر پر غالب آنا۔ ـ فی الارض: تکبر کرنا۔ ـ بہ: کو اونچا کرنا، بلند کرنا۔ ـــ العینُ عن فلان: نگاہ کا کسی سے آگے بڑھ جانا۔ ـــ فی المکارم: درجہ میں بلند ہونا۔ عَلِیَ ـــ عَلاءً الشیُ اولنہارُ: چیز کا بلند ہونا۔ دن کا خاصہ چڑھ جانا۔ ـــ فی المکام: درجہ میں بلند ہونا۔ عَلّی الشیَ: پر چڑھنا کو اونچا کرنا۔ الـمتاعَ عن الدابة: جانور سے سامان اتارنا۔ اللّٰہُ فلانًا: اللہ کا کسی کو بلند کرنا اور عالی مرتبہ بنانا۔ عَالَی الشیَ: چیز کو اونچا کرنا۔ ـــ الشیَ وبہ: پر چڑھنا، کہتے ہیں عـــالِ عنی: مجھ سے دور رہو۔ اَعْلَی الشیَ: پر چڑھنا، کو اونچا کرنا۔ ـ المتاعَ عن الدابة: سامان کو جانور سے اتارنا۔ تَعَلَّی الرجُلُ: آہستہ آہستہ چڑھنا۔ ـ ت المرأةُ من مرضہا: عورت کا صحت یاب ہونا۔ تَعَالَی: بلند ہونا۔ ـ ت لمرأةُ من مرضہا: عورت کا صحت یاب ہونا۔ تعالَ۔ (فعل امر): آجا۔ آ۔ اِعْتَلَی الشیُ او النہار: چیز کا بلند ہونا، دن کا خوب چڑھ آنا۔ ـــ الشیَ: پر چڑھنا۔ اِسْتَعْلَی النہارُ: دن کا چڑھ آنا۔ ـ ہُ: پر غالب ہونا۔ ـــ الشیَ: پر چڑھنا۔ اِعْلَوْلَی الشیَ: پر چڑھنا۔ الـعـالـی (فا) رجُلٌ عالی الکعب: شریف، کہتے ہیں: اتیتہُ من عال: میں اوپر سے اس کے پاس آیا۔ العالیة جمع عالیات و عَــوَالٍ: عالی کا مونث۔ نیزے کے اوپر کا حصہ یا نیزے کا نصف اعلی۔ عـالیةُ الشی: چیز کا بلند ترین حصہ۔ عالیة الوادی: وادی کا وہ حصہ جہاں سے پانی گرے۔ الـعوالی نیزے، شہر کے آس پاس کے گاؤں۔ ان کی طرف نسبت عالیٌّ و عُلْوِی۔ عُلُ: اسم بمعنی فوق (اوپر)۔ کہتے ہیں۔ من عَـلُ: جب معرفہ ہو تو ضم پر مبنی ہونے کی وجہ سے اور نکرہ ہونے کی صورت میں معرب آتا ہے۔ معنی اوپر سے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں: اتیتہ من علا: میں اس کے پاس اوپر سے آیا۔ العَلاء و العَلَی: بلندی، شرافت۔ العَلاة جمع عَـلَـوَات وعَلاً: نہائی، بھاری بھرکم اور اونچی

اونٹنی۔ عَلُوُ و عُلُوُ و عِلُوُ و عَلَاوَۃ الشئ: کی بلندی۔ کہتے ہیں: آخُذہ عَلُوًا: میں اسے زبردستی لے لوں گا۔ العِلَاوَۃ جمع عَلَاوَی و عَلَاوِیّ: بوجھ لادنے کے بعد جو کچھ لٹکایا جائے۔ سر یا گردن کا اوپر کا حصہ۔ مِن کلّ شئ: ہر چیز کا زیادہ حصہ کہتے ہیں: أَعطیتك الف دینار و دینارًا عِلَاوَۃً: میں نے تمہیں ایک ہزار دینار دیئے اور ایک دینار زائد دیا۔ العَلُوُ و العَلَایَۃُ: بلند جگہ۔ العِلیُ: کہا جاتا ہے: هُم عِلیُ القوم: وہ لوگ سردار القوم ہیں۔ العَلِیّ جمع عَلِیّون و عِلیَۃ: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک نام بلند، شریف، سخت، کہا جاتا ہے: هم عِلیۃُ القوم: وہ لوگ قوم کے سردار اور شرفاء ہیں۔ العِلیّ: بلندی۔ العَلَوِیّ م عَلَوِیَّۃ: حضرت علیؓ کی طرف نسبت۔ العِلِّیّان: بلند آواز۔ العُلِّیَّۃ و العِلِّیَّۃ جمع عَلَالِی: بالا خانہ۔ کہا جاتا ہے: هو من عُلِّیَّۃِ قومه وعِلِّیَتِهِمُ و عِلِّهُمُ و عُلِّهم: وہ اپنی قوم میں رفعت اور شرف والا ہے۔ العِلِّیُّون: عِلِّیُ کی جمع جنت اعلیٰ کا نام۔ وہ لوگ جو شہر کے اونچے مقامات پر رہتے ہیں۔ امیر اور شریف لوگوں کو اھل عِلّیین: کہتے تھے اور پست درجے والوں سِفلیُّون۔ الاعلی م عُلیا جمع عُلًی: اسم تفضیل۔ زیادہ بلند۔ کہا جاتا ہے: هو اعلی بهم عینًا: وہ ان کے حالات کا زیادہ صاحب ادراک ہے۔ العُلیَاء: ہر بلند جگہ، بلند کہا جاتا ہے: شفۃٌ عُلیا: اوپر کا ہونٹ۔ العَلیَاء: ہر بلند جگہ۔ بلند۔ (شفۃُ عَلیَاء: اوپر کا ہونٹ)۔ پہاڑ کی چوٹی، آسمان۔ العِلیان: بلند آواز۔ ـــ و العَلیَان: موٹا اور لمبا۔ رجُلٌ علیان وامراۃ علیان: موٹا اور لمبا آدمی۔ موٹی اور لمبی عورت۔ المَعُلاۃ جمع مَعَالٍ شرافت و بلندی۔ المُعَلَّی: جوا کھیلنے کا ساتواں تیر۔ الحُرُوف المُستَعلِیَۃ: خ، ص، ض، ط، ظ، غ و ق۔

۲۔ عَلَّی الکتابَ: کتاب کا عنوان لکھنا۔ العُلیَان: کتاب کا عنوان۔

۳۔ عَلوَن عَلوَنَۃً و عَلوَانًا الکتابَ: خط پر پتہ لکھنا (خط پر مکتوب الیہ کا نام لکھنا)۔ عُلوان الکتاب: سرنامہ۔

○ علا ـــ عُلُوًّا: اونچا ہونا، بلند ہونا، اونچا اٹھنا، اٹھنا، چڑھنا، آواز کا بلند ہونا، سینہ کا چڑھنا اترنا۔ اوپر نیچے ہونا ـــ ہ / ھ / عن: سے اونچا یا لمبا ہونا یا بڑھنا، سے بہت اونچا ہونا ـــ ھ / علی: سے زیادہ بلندی پر ہونا ـــ ھ: کے اوپر جڑنا، لگا ہونا، جڑا ہوا ہونا، سے بلند ہونا ـــ ہ / ھ / علی: سے بڑھ جانا، متجاوز ہونا، کیلئے بہت اونچا ہونا ـــ ہ / علی: پر قابو پانا، کو زیر کرنا، کو قابو میں لانا، کو گھیرے میں لینا، کو کچل دینا ـــ ہ: کا بہتر حصہ لینا ـــ: اوپر کی طرف مڑنا ـــ ھ: کو ڈھانپنا، ڈھانکنا، پر پھیل جانا، پر چھا جانا۔ پر چڑھنا ـــ ھ / ہ: پر پڑنا، کو گرفت میں لینا۔ علا به: کو اونچا کرنا، بلند کرنا، کو بڑھانا، کی تعریف کے پل باندھنا، کو سرفراز کرنا، علت به السِنُّ: بوڑھا ہو جانا۔ علاصوته ب: کو بلند آواز سے کہنا، چیخ اٹھنا، چیخ پکار کرنا۔ عَلِیَ ـــ عَلَاءً: اونچا ہونا، بلند ہونا، بازی لیجانا سبقت لے جانا، نمایاں ہونا عَلَی ـــ عَلیًا السطح: چھت پر چڑھنا۔ علا الاداۃَ الصدأُ: پرزہ پر زنگ لگنا۔ علت وجهَه صُفرَۃُ الاموات: اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ عَلَتهُ السآمۃُ: وہ تھکن سے چور ہو گیا، علت شَفَتَیه رَغوۃٌ: اس کے ہونٹوں پر جھاگ آ گئی۔ عَلَّی ہ / ھ: کو اونچا کرنا، بلند کرنا، کو سرفراز کرنا، کی حمد و ثنا کرنا۔ اَعلَی: بمعنی عَلَّی نیز اَعلَی شانَہُ: پر زور دینا، کو بانس پر چڑھانا، کو ترقی دینا، کو آگے بڑھانا، بڑھانا، کا وقار اونچا کرنا۔ تعالیَ: بلند ہونا، گونجنا، کا چرچا ہونا، بلند ہونا، سرفراز ہونا، صاحب جلال ہونا (اللہ تعالیٰ کا) ـــ علی: اپنے آپ کو سے بلند سمجھنا، کو نظر حقارت سے دیکھنا ـــ عن: سے دور رہنا۔ تعالی: (یہاں) آؤ۔ ذرا نکلو تو، سامنے تو آؤ، آؤ چلیں، بڑھے چلو۔ اِعتَلَی: اونچا ہونا، بلند ہونا۔ ھ: پر چڑھنا، کسی عہدے پر فائز ہونا۔ اِستَعلَی علی: سے بلند ہونا، کا ماہر بننا کا، قبضہ لینا، کا مالک بن بیٹھنا، پر قابض ہونا، پر تصرف کرنا۔ عُلُو: بلندی، اونچائی، عظمت، بڑائی، شان و شوکت، جلال، سرفرازی، رفعت۔ عُلُوُّ الصوت: آواز کا حجم، زور آواز کی شدت۔ (Sound volume or intensity) علو الکَعب اعلیٰ منصب، نمایاں مقام۔ عُلُوِی: اوپر کا بالائی، آسمانی، مقدس، قدوسی۔ اِرادَۃ عُلوِیۃ: اعلیٰ، ارادہ یا منشا عَلَوِی: اوپر کا بالائی، آسمانی، بہشتی، ملکوتی۔ الْعَلَوِیُّون: علوی، شمال غربی شام کے ساحلی علاقہ میں رہنے والے نصیریوں کا سرکاری نام عُلًی: بلندی، اونچائی، رفعت، سرفرازی۔ جلال، علوشان، جلالت قدر، بلند منصب، عَلَی: پر، کی چوٹی پر، (جگہ، منصب): کے ذریعے، ہی، کی حالت میں کے انداز میں، کے قبضہ میں۔ کو، کی طرف، کیلئے، کے علاوہ، کے حساب میں، کے ذمے، کے مفاد کے خلاف، کے خلاف، کے باوجود، کے علی الرغم، کی بنا پر، کے باعث، کی سند سے، بسند، کی وجہ سے، پر، بذریعہ، کے ذریعے، کیمطابق، کے ذوق کے مطابق، کی رائے میں، کی پسند کے مطابق، حسب دلخواہ، کے دوران۔ من علی: اوپر سے، کی چوٹی سے، عَلَی اَنْ: بشرطیکہ، کی شرط پر، اگر چہ، ہر چند، باوجودیکہ، گو کہ۔ علی اَنَّ: لیکن، تاہم، مگر، دوسری طرف یہ، پھر بھی، تاہم، بایں ہمہ، علی انَّه: جیسے: جَنَی ثمراتِ الارض عَلی انها نِعمۃُ الآلهۃ: اس نے زمین کے پھلوں کی فصل کاٹی (اور انہیں قبول کیا) جیسے وہ دیوتاؤں کی طرف سے عطا کردہ نوازش و مہربانی ہوں۔ علی ظهر الخیل: گھوڑے کی پیٹھ پر، علی ظهر الباخرۃ: دخانی جہاز میں۔ السلام علیکم: تم پر سلامتی ہو۔ علی الراس والعین: بڑی خوشی سے۔ علی رؤوس الأشهاد: کھلم کھلا، علی الاعلان، سب کی نظر کے سامنے۔ جلس علی النار: وہ آگ کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ علی یمینه: اس کے دائیں (جانب) علی کل حالٍ یا علی کُلٍّ: بہر حال علی الخصوص: خاص کر، بالخصوص، خصوصیت سے، خصوصاً۔ علی الاطلاق: مطلقاً، یقیناً واقعی، بلا پابندی، بلا استثناء، کسی پہلو سے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی صورت حال میں۔ علی التقریب: تقریباً، قریب قریب، علی التَوَالِی: لگاتار، مسلسل، پے در پے، بلا انقطاع ایک دوسرے کے بعد۔ علی ضوءٍ یا علی نورٍ: کی روشنی میں۔ کان علی حقٍ یا کان علی الحق: صحیح راستہ پر ہونا، حق پر ہونا۔ کان علی الباطل او کان علی خطَأٍ: غلط راستہ پر ہونا، غلطی پر ہونا۔ هو علی اَحسنِ ما یُرام: وہ اتنا ہی ٹھیک ٹھاک ہے جتنا تم اس کے لئے دعا کر سکتے ہو۔ هو علی شئٌ من: وہ ایک...... رکھتا ہے۔ هو علی شئ من الذکاء: وہ کافی سمجھ، ذہانت، عقل، فہم یا فراست رکھتا ہے۔ لیس هذا علی شئ: اس میں کچھ نہیں، یہ بیکار، ناکارہ یا فضول ہے۔ لیس من هذا کُلِّهِ علی شئ: یہ سب کچھ اس کے لئے غیر مانوس ہے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کان علی دین المسیح: وہ مسیحیت سے تعلق رکھنا۔ مسیحی ہونا۔ کان علی علم ب: سے مطلع ہونا، واقف ہونا، کان علی انتظارہ: کا انتظار کرنا۔ علی غیرِ شئٍ: بلا وجہ۔ علی بصیرۃٍ من الامر: معاملہ سے آگاہ، معاملہ کو جانتے ہوئے۔ علی غیر معرفۃٍ منه: کے بارے میں نہ جانتے ہوئے، اس کے علم کے بغیر، نادانستہ طور پر۔ علیك ب (ہ / ھ) ا ...... لو: سے

شوق فرمایئے، تناول فرمایئے، کو استعمال کیجئے۔ علیك بالصبر: تمہیں صبر (برداشت) کرنا ہوگا۔ عَلَیَّ به: کو میرے پاس لاؤ، کو مجھے دو۔ وہ میرے پاس ہونا چاہئے۔ علیه أن: اس پر لازم، لازمی، واجب یا فرض ہے کہ...... یہ اس کا فرض ہے کہ، اسے چاہئے کہ، اس کو...... کرنا ہوگا۔ لاعلیك: پریشان نہ ہو۔ فکر نہ کرو۔ لاعلیه: برا نہ مانئے۔ یہ کچھ نہیں۔ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ماعلینا: اس کا کیا ہے! اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمیں اسے بھول جانا چاہئے! ما علیك من: آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ برا نہ مانئے۔ اس کا کچھ خیال نہ کریں۔ ما علیه ان: وہ پروا نہیں کرتا اگر...... اس کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں کہ...... علی حسابه: کے خرچ پر۔ علیه دین: وہ مقروض ہے۔ هو علی سِنِّ قرنٍ: وہ اپنے سالوں کو اچھی طرح جھیلتا ہے۔ عَلامَ: کس لئے؟ کیوں؟ استیقظ علی الاذان: وہ اذان سن کر اٹھ بیٹھا، جاگ گیا، اذان نے اسے جگا دیا۔ قیل علی لسانه ما: خیال ہے کہ اس نے ایسی باتیں کیں جو۔ اس سے ایسے بیانات منسوب کئے گئے جو...... علی یده: کے ذریعے، اس کے ہاتھوں علی ذلك: اس طرح، یوں، اس لئے، چنانچہ، لہٰذا، بدیں وجہ، علی ما یُقالُ: جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے۔ علی حَسَبِ: کے مطابق، کے حسب حال، کے مناسب، پر اعتماد، بھروسہ، انحصار کرتے ہوئے، پر موقوف۔ علی طَوْعٍ منها: اس کی طرف سے اطاعت کے ساتھ، اس کی طرف سے مخالفت کے بغیر۔ علی عادته: اس کی عادت کے مطابق، جیسا کہ اس کا معمول (دستور) ہے۔ جیسا کہ اس کی عادت ہے۔ علی حینِ غَفْلَةٍ: اچانک، یکا یک، غیر متوقع طور پر، بے خبری میں۔ علی عهدِ: کے عہد میں، کے زمانہ میں، کے وقتوں میں۔ الدولةُ العلیّة: سلطنت عثمانیہ کا قدیم نام۔ عِلْیَةُ الناس، علیة القوم: بالائی طبقہ، ممتاز لوگ، نمایاں لوگ، عُلِّیة و عِلِّیة: بالا خانہ، جمع علالی۔ عِلِّیون: سب سے اوپر کا آسمان، بلند ترین جگہیں۔ اهلُ العَلْیاء: بلند ترین سماجی حیثیت کے لوگ۔ علاوَة: اضافہ، بیشی، فالتو، مزید، الاؤنس، قیمتیں کم کرنے کیلئے امداد (Subsidy)۔ علاوةً علی: مزید برآں، علاوہ ازیں۔ اَعْلَی م عُلْیا جمع عُلی و اَعالٍ: بلند تر، بلند ترین، بالائی، اوپر کا، سب سے اوپر کا، بلند ترین۔ اَعَالٍ: کسی چیز کا بلند ترین حصہ۔ پہاڑ کی چوٹیاں، پہاڑیاں، بلند جگہیں۔ اعْلاه: مزید اوپر، اوپر، بالا، مذکور اعلاه: مذکورہ بالا۔ مؤتمر (مُنْعَقِدٌ) علی أعْلَی مُسْتَوَیً: اعلیٰ سطح کی کانفرنس۔ Top level conference۔ بَاعْلَی صوتٍ: اونچی آواز سے، کی انتہائی بلند آواز میں۔ سفینة اعالی البحار: سمندری جہاز۔ اعالي النیل: دریائے نیل کا بالائی راستہ۔ معالی الأمور: شرافت کی باتیں (امور) صاحب المعالی یامَعَالِیه: فضیلت مآب (گورنر یا سفیر کا لقب)۔ معالی الوزیر: فضیلت مآب وزیر۔ His Excellency the minister (کابینہ کے وزراء کا لقب)۔ تَعْلِیة: بلندی، ارتفاع، بڑھانا، اٹھانا، بلند کرنا، بہبود، سرفرازی (آواز) بلند کرنا۔ إعلاء: بلندی، بڑھانا، بہبود، اونچا کرنا، اعلاء شان الشي: کو تقویت دینا، ترقی دینا، ترقی، برتری۔ اعتلاء: (تخت) نشینی، کابینہ کے وزیر کا تقرر۔ استعلاء: برتری، تفوق۔ عَالٍ: بلند، لمبا، اونچا، سخت (آواز) پرجلال، بلند مرتبہ، بلند حیثیت، بہت عمدہ، اعلیٰ، درجہ اول کا، نمایاں، اونچی قسم کا، ضغط عال: بلند ووٹیج (High voltage)۔ بلند تناؤ، تواتر عالٍ: بلند تعدد امواج high frequency۔ عَالِیَةُ: اوپر، مذکورہ بالا۔ مذکور بعَالِیه: مذکورہ بالا۔ عالِ العَال: بہت عمدہ۔ اعلیٰ، اعلیٰ قسم کا۔ اے ون (مال تجارت)۔ مُتَعالٍ: اونچا، بلند، سرفراز، گونجتا ہوا، بجتا ہوا۔ المُتَعَالِي: ہستی برتر، خدائے برتر، خدا تعالیٰ (اللہ تعالیٰ کی ایک صفت)۔

علی: عَلِيَ ـ عَلْیًا وعُلِیًّا السطحَ: چھت پر چڑھنا۔ العَلْیُ والعِلْیُ والعُلْیا والعَلْیا والعِلْیان والعُلْیان والعَلایَة والعِلْیَة والعَلِيّ والعِلِيّ: (مادہ ع ل و میں دیکھو)۔ علی: حرف جر درج ذیل معانی کے لئے آتا ہے۔

۱۔ استعلاء جیسے حُمِلَ علی الدابّة: کو جانور پر لادا گیا۔
۲۔ مصاحبت جیسے بذل المالَ علی فقره: اس نے تنگدستی کے باوجود مال کو خرچ کیا۔
۳۔ مجاوزت بمعنی (عن) جیسے رضی علیه بمعنی رَضِیَ عنه: وہ اس سے راضی ہوا۔
۴۔ ظرفیت بمعنی (فی) جیسے دخل المدینة علی حین غفلة: وہ شہر میں غفلت کے وقت داخل ہوا۔
۵۔ تعلیل جیسے عَلامَ تضربنی: مجھے کیوں مارتے ہو۔
۶۔ موافقت باء جیسے اِرْکَبْ عَلی اِسمِ اللّٰهِ: اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ۔
۷۔ استدراک جیسے عَلی اَنَّ قربَ الدار خیرٌ مِن البُعْد: لیکن گھر کا قرب دوری سے بہتر ہے۔
۸۔ فوق کے معنی میں اسم ہو کر مستعمل ہوتا ہے، جبکہ مِن کے بعد آئے جیسے: اقام من علی جناح الهیکل: وہ ہیکل کے بازو پر کھڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔ عَلَیَّ کذا وبکذا: مجھے اتنا دو۔ عَلَیك زیدًا: زید کے ساتھ رہو۔ علیك بکذا: فلاں چیز کو لازم پکڑو۔ اس صورت میں یہ اسم فعل ہوتا ہے۔

○ (ع ل و کے ساتھ پہلے ہی اوپر یہ مادہ (ع ل ی) دیا جا چکا ہے)۔

عمّ: ۱۔ عَمَّ ـ عُمُومًا الشیُّ: عام ہونا ــ المطرُ الارضَ: بارش کا تمام زمین پر برسنا۔ القومَ بالعطیّة: عطیہ میں سب کو شامل کرنا۔ عَمَّمَ: عام کرنا۔ اِعْتَمَّ الشابُّ: نوجوان لمبا ہو گیا۔ العَامّ (فا): عام، سب کو شامل ہونے والا (خاص کا مقابل)۔ العَامَّة جمع عَوَامّ: عام کا مونث۔ عامّةُ الناس: عام لوگ، کہا جاتا ہے۔ جاءَ القومُ عامّةً: ساری قوم آئی۔ العَمَم: کثیر جماعت۔ والعُمّ: لمبے لمبے کھجور کے پیڑ۔ العَمَّة جمع عَمّات: اسم مرة۔ رجلٌ عُمِّيٌّ: عام مرد۔ العَمَم: کثرت، اجتماع، عامّة کا اسم جمع (خاصة کا مقابل) ہر شے (معاملہ) کا عام وشامل، کہا جاتا ہے: استوی فلانٌ علی عَمَمِهِ: فلاں شخص اپنے تمام جسم، جوانی اور مال کا مالک ہوا۔ رجلٌ عَمَمٌ: کامل عقل اور خیر والا۔ العُمُم: جسم، جوانی اور مال وغیرہ کا کمال۔ العِمامَة: قیامت، قحط۔ العُمُوم (مص): عمومیت، شمولیت، نسبت کیلئے عمومی آتا ہے۔ العَمِیم جمع عُمُم: ہرا کھٹی اور بہت چیز، کہتے ہیں: نبت عمیم: کثیر تعداد کے اکھٹے پودے، قوم کا خالص، ہر کامل چیز۔ العَمِیمَةُ من النساء: ج عُمّ: پورے قد کی لمبی عورت۔ نخلةٌ عمیمةٌ: لمبا درخت خرما۔ الأعَمّ: اسم تفضیل۔ کثیر جماعت، موٹا۔ المِعَمّ: صاحب خیر، فیض عام والا۔

۲۔ عَمَّ ـ عُمُومَةً: چچا بننا۔ اعَمَّ: معزز چچوں والا ہونا۔ تَعَمَّمَهُ: کو چچا کہہ کر پکارنا۔ اسْتَعَمَّهُ: کو چچا بنانا۔ العَمّ جمع عُمُومَة و اَعْمام واَعُمّ: چچا۔ نسبت کیلئے عَمَوِیّ آتا ہے۔ بعض مولدین کے نزدیک شوہر کے باپ اور بیوی کے باپ کی کنیت عم ہے۔ عورت اپنے شوہر کو ابن عمی کہتی ہے اور مرد اپنی بیوی کو ابنة عمی کہتا ہے۔ العَمَّة جمع عَمّات: باپ کی بہن، پھوپھی۔ المِعَمّ والمُعَمّ: معزز چچوں والا۔ بہت چچوں والا۔

۳۔ عَمَّ عَمًّا رأسَهُ: کے سر پر پگڑی باندھی جانا۔ عَمَّمَهُ: کو پگڑی پہنانا۔ ـــــ ہُ الامرَ: کو معاملہ سپرد کرنا۔ عُمِّمَ رأسُهُ: کے سر پر پگڑی باندھی جانا۔ ـــــ الرجُلُ: کو سردار بنایا جانا۔ تَعَمَّمَ و اِعْتَمَّ واسْتَعَمَّ: پگڑی پہننا، کہا جاتا ہے: تعممت الآکامُ بالنبت: ٹیلوں پر نباتات پگڑی کی طرح ظاہر ہوئی۔ العِمَّة: پگڑی باندھنے کی ہیئت۔ العمامة جمع عَمَائِم و عِمَام: پگڑی، خود کا وہ حصہ جو سر کے برابر بنا کر ٹوپی کے نیچے پہنا جاتا ہے۔ کہتے ہیں: ارخی عِمامَتَهُ: وہ خوش حال ہو گیا۔ المُعَمَّم: وہ سردار جس کو قوم نے مقتدا مان لیا ہو۔

⭘ عَمَّ: عَمَّ ـُـ عُمومًا: عام ہونا یا ہو جانا، ہمہ گیر یا عالمگیر ہونا یا ہو جانا، مشترکہ یا مشترک ہونا یا ہو جانا، رائج یا مروج ہونا یا ہو جانا، قابل فہم یا قابل شمول ہونا یا ہو جانا، سب کو شامل ہونا یا ہو جانا، پھیلنا، کا رواج ہونا۔ ـــــ ہ: پر مشتمل ہونا، کو شامل ہونا، پر محیط ہونا کے گرد حلقہ ڈالنا، کو محصور کر لینا، میں سرایت کرنا، میں رچ بس جانا۔ ـــــ ہ: پر پوری طرح پھیل جانا، پہنچ جانا، تک پھیلا ہوا ہونا، پر پھیلا ہوا یا منتشر ہونا یا غالب ہونا۔ عَمَّتْ البَلْوَى بہ: یہ ایک عام ضرورت بن چکی ہے۔ عَمَّمَ ہ: کو رائج کرنا، ترویج دینا، عمومی رواج دینا، کو کلی بنانا، عام اصولی قرار دے لینا، سبھی کو لپیٹ میں لے لینا، کو ہر جگہ پھیلانا، کو ہمہ گیر اصول بنا لینا یا سمجھنا، کو مقبول کرنا، رواج دینا، کو جمہوری بنانا، کو ہر جگہ سہل الحصول یا قابل حصول بنانا، کو عام پبلک کے لئے کھلا کرنا، کو دعوت عام بنانا، کو ہر جگہ رائج کرنا۔ ـــــ ہ: کو پگڑی پہنانا۔ تَعَمَّمَ: پگڑی باندھا یا پہنا۔ اِعْتَمَّ بمعنی تَعَمَّمَ۔ عَمّ جمع عُمُوم و اَعمام: چچا، تایا۔ ابنُ العم: چچا یا تایا کا بیٹا، چچیرا یا پھپھیرا بھائی۔ بنت العم: چچا یا تایا کی بیٹی۔ عَمَّة جمع عَمَّات: پھوپھی، ممانی۔ عِمَّة: پگڑی۔ عَمِيم: عام، ہمہ گیر، عالمگیر، مشترک، مشترکہ، رائج، مروجہ، سب کے لئے قابل فہم، قابل شمول۔ عُمُوم: عام بات، قاعدہ، کلیہ، عمومیت، ہمہ گیری، عالمگیری، (کا) زور، (کا) جگہ پر پھیلا ہونا، کل، مجموعی، مکمل، ہم گیر، مجموعیت جملہ، مجموعہ۔ العُمُوم (عام) لوگ، سبھی لوگ۔ عُمُومًا: عام طور پر، عموماً، بالعموم۔ عُمُومًا ـــــ خصوصاً: بالعموم، بالخصوص۔ علی العموم عام طور پر، عموماً، بالعموم، بوجہ العموم: عام طور پر، بالعموم، عموماً۔ فی عموم القُطر: ملک بھر میں مجلسُ العُمُوم دار العوام House of Commons۔ جامعة عموم العُمّال: مزدوروں کا وفاق عام general federation of labour۔ ادارة عموم الجمارك: کسٹمز اور تاجی محصولوں کی عام انتظامیہ General administration of customs and tariffs۔ دیوان عموم المَصْلَحَة: صدر دفتر انتظامیہ، چیف ایڈمنسٹریشن آفس۔ Administration headquarters۔ دیوان عُموم المالية: مالیات کی عام انتظامیہ General administration of finances۔ تفتیش عموم الريّ: نظارت آبپاشی۔ مفتش عموم النيل الجنوبي: جنوبی نیل کا انسپکٹر جنرل۔ عمومي: عام، عوامی، ہمہ گیر، عالمگیر، بلا استثناء، مشترک، مشترکہ۔ ریاستی، شہری، عوامی۔ جمعية عمومية: جنرل اسمبلی، پورا اجلاس (Plenary session)۔ دار الکتب العمومية: پبلک لائبریری۔ اشغال عمومية: پبلک ورکس الصندوق العمومي: عوامی خزانہ Public treasure عِمامة جمع عَمائِم: پگڑی۔ تعميم: دیکھو عَمَّمَ عام، عوامی، عام، ہمہ گیر، عالم گیر، بلا استثناء، رائج، مروجہ، مشترک، مشترکہ۔ الامن العام: عوام کی حفاظت Public Security۔ مدير عام: ڈائریکٹر جنرل، جنرل منیجر۔ الرأى العام: رائے عامہ Public opinion۔ المصلحة العامة یا الصالح العام: بہبودی عوام، بہبود عامہ Public welfare۔ الخاص والعام یا العام والخاص: سب لوگ۔ العوام: عام لوگ، عوام۔ عَامِي: مشترک، مشترکہ، بازاری، سوقیانہ، ادنی طبقے کا، معمولی، مقبول عام، عوامی، معمولی شخص، گلی کوچہ کا آدمی۔ العَامِيّة: عوامی زبان، عامیانہ، عام بول چال، غیر ادبی، روزمرہ کی، بے تکلفانہ بول چال۔ مُعَمَّم: جو پگڑی پہنے ہوئے ہو۔ پگڑی والا۔ عماء دیکھئے عن ما۔

عمب: العمبر: العَنْبَر: عنبر۔

عمت: ۱۔ عَمَتَ ـِ عَمْتًا و عَمَّتَ الصوفَ: اون کی پونی بنانا۔ العَمِيتَة جمع عَمَائِت و عُمُت و أعْمِتَة: اون کی پونی۔

۲۔ عَمَتَ ہُ: کو مغلوب کرنا، کو اس کے مقصد سے ہٹانا۔

۳۔ عَمَتَ ہُ: کو اندھا دھند لکڑی سے مارنا۔ العِمِّيت جمع عَمَامِيت: مدہوش، جو چلنے میں کسی طرف ہدایت نہ پا سکے۔

۴۔ رجُل عَمِيتٌ: ظریف، بہادر، عالم زیرک۔ العِمِّيت جمع عَمامِيت: نگران۔ زیرک بذلہ سنج۔

عَمَج: عَمَجَ ـِ عَمْجًا: پانی میں تیرنا۔ ـــــ فی سیره: دوڑنا۔ ـــــ و تَعَمَّجَ السیل او الحيّة: سیلاب یا سانپ کا پیچدار ہونا۔ العَمَج و العُمُج و العَوْمَج: سانپ۔

عمد: ۱۔ عَمَدَ ـِ عَمْدًا السَّقْفَ: چھت میں ستون لگانا، چھت کو مضبوط کرنا۔ عَمِدَ ـَـ عَمَدًا بہ: کے ساتھ لگا رہنا۔ اِعمَدَ الشَّیءَ: کے نیچے ستون لگانا۔ اِعْتَمَدَ الحائطَ و عَلَى الحائِطِ: دیوار سے ٹیک لگانا۔ ـــــ ہُ و اعتمد علیه: پر بھروسہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ اعتمد لیلتَهُ: وہ رات کو سوار ہو کر گیا۔ اِنْعَدَمَ الشَّیءُ: ستون کے بل کھڑا ہونا کہا جاتا ہے۔ عَمَدَهُ فَانعدم: اس نے اسے مضبوط کیا تو وہ مضبوط ہو گیا۔ العامد: (ھ) کمود لیلة عامِدَة لمبی رات۔ العَمَدَة جمع عُمَد: جس پر ٹیک لگائی جائے۔ جس پر بھروسہ کیا جائے کہا جاتا ہے: انت عُمدتنا فی الشدائد: یعنی مصائب و سختیوں میں ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تجھے ہی سہارا بناتے ہیں۔ لشکر کا پیغامبر۔ العُمُدّ والعُمُدّانی: کامل تر نوجوان۔ العِماد جمع عَمَد و عُمُد: جس کا سہارا لیا جائے، لشکر کا پیغامبر۔ ـ(واحد عمادة): بلند عمارتیں۔ اهل العماد: بلند و بالا عمارتوں والے، کہا جاتا ہے: فلانٌ طويل العماد: اس کا مکان زائروں کے لئے علامت ہے۔ هو رفيع العماد: وہ شریف ہے۔ العَمُود جمع أعْمِدَة و عَمَد و عُمُد: ستون، سردار، لشکر کا پیغامبر، جگر کو سیراب کرنے والی رگ کان کا بڑا حصہ۔ العمود والخط العمودی (عند المهندسین): وہ خط جو دوسرے خط پر واقع ہو۔ جس کے دونوں طرف دو برابر زاویے نکلیں۔ عَمُودُ البَطْن: پیٹھ، کہا جاتا ہے ضربَهُ على عَمُود بطنه: اس نے اس کی پیٹھ پر مارا۔ عَمُودُ الميزان: ترازو کی ڈنڈی۔ عمود الصبح صبح کی روشنی۔ عَمُودُ النَّسَب جو خط مستقیم پر ہو۔ کہا جاتا ہے: استقاموا على عمود رأيهم: وہ ٹھوس رائے پر جمے رہے۔ اهلُ العَمُود و اهلُ العُمُد: خانہ بدوش لوگ۔ العَمِيد: وہ مریض جو بیٹھنے کی قوت نہ رکھتا ہو۔ عَمِيدُ القوم: قوم کا سردار جمع عُمَداء عميد الامر: قوام۔

۲۔ عَمَدَ ـِ عَمْدًا للشیء و الی الشیء: کو کرنے کا ارادہ کرنا۔ الی الرجُلِ: کے پاس جانا۔ تَعَمَّدَ الامرَ: کا ارادہ کرنا۔ العَمْد (مص) کہا جاتا ہے۔ فعله عَمْدًا و عن عَمْدٍ: وہ کام اس نے ارادۃً کیا۔

اتفاقیہ طور پر نہیں۔ فعله عَمْدَ عینٍ و عَمْدًا علی عینٍ: اس نے وہ کام کوشش اور یقین سے کیا۔

۳۔ عَمَدَ ۔ عَمْدًا الشئَ: کو گرانا۔ ۔ ۂ المرضُ او الامرُ: بیماری یا کام کا کسی کو دبلا کرنا اور تکلیف پہنچانا۔ عَمِدَ ۔ عَمَدًا فلانٌ: دردمند ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ عَمَدَنی الامرُ فَعَمِدْتُ: معاملہ نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میں نے تکلیف اٹھائی۔ العَمُود: سخت غمگین، سخت غم زدہ۔ العَمِید: جمع عُمَداء: سخت غمزدہ۔ وہ شخص جس کو عشق نے شکستہ خاطر کر دیا ہو۔ عَمِیدُ الوجع: درد کا مقام، درد کی جگہ۔

۴۔ عَمَدَ ۔ عَمْدًا ہُ: کو ستون سے مارنا۔ عَمِدَ ۔ عَمَدًا علیه: پر غضبناک ہونا۔ العَمُود جمع اَعْمِدَة و عَمَد و عُمُد: لوہے کا ڈنڈا۔

۵۔ عَمَدَ ۔ عَمْدًا و عَمَّدَ الولدَ: بچہ کو بپتسمہ دینا۔ تَعَمَّدَ و اعْتَمَدَ: بپتسمہ لینا۔ العماد: بپتسمہ۔ المعمودیة: بپتسمہ۔ مسیحی دین کی پہلی رسم اور نصرانیت کا پہلا دروازہ جس میں بچے اور وغیرہ کو باپ بیٹے اور روح القدس کا نام لیکر پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ سریانی لفظ ہے یا عَمَدَ بمعنی بھگو دینا سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے مولد ہے اور عربی زبان میں بعد میں رائج ہوا تھا۔

۶۔ عَمِدَ ۔ عَمَدًا الثری: بارش کا مٹی کو تر کرنا۔ عَمَّدَ السیلَ: بہتے پانی کو بند لگا کر روکنا اور جمع کرنا۔ العَمِد: وہ جگہ جس کو بارش نے بھگو دیا ہو۔ کہا جاتا ہے۔ ھو عَمِدُ الثری: وہ بڑا فیاض ہے۔

۷۔ عَمِدَ ۔ عَمَدًا منه: پر تعجب کرنا، اس سے ابو جہل کا قول ہے: اَعْمَدُ من سیّدٍ قتلهُ قومه: مجھے اس سردار پر تعجب ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا بلکہ اس کا معنی ہے: کیا وہ شخص اس سردار پر سبقت لے گیا، جسے اس کی قوم نے قتل کر دیا۔

○ عَمَدَ ۔ عَمْدًا ہ: کو اٹھائے رکھنا، کا سہارا ہونا، کا بوجھ اٹھانا، کو تھامے رکھنا، کی پشتہ بندی کرنا۔ ۔ ہ/ الی/ ل: کا ارادہ ہونا، غرض ہونا، مقصد ہونا، کے پاس جانا۔ ۔ الی/ ل: کے قریب ہونا، کے پاس آنا، کے نزدیک جانا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑہ اٹھانا، کو کرنے لگنا، کو کرتے رہنا، تن دہی سے کوئی کام کرنا، پر توجہ کرنا، کو شروع کرنا، کی طرف توجہ کرنا، کا رخ کرنا، کا آغاز کرنا۔ ۔ الی: کی طرف توجہ کرنا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا۔ عَمَّدَ ۔ عَمْدًا ہٗ: کو بپتسمہ دینا، عیسائی بنانا۔ عَمَّدَہ: کو بپتسمہ دینا، کو عیسائی بنانا، کو اصطباغ اَعْمَدَ ہ: کا بوجھ اٹھانا، کا سہارا ہونا، کا بوجھ اٹھانا، کو تھامے رکھنا، کا پشتہ ہونا۔ ۔ ہ: کو بپتسمہ دینا، اصطباغ دینا۔ تَعَمَّدَ ہ: کا ارادہ ہونا، غرض یا مقصد ہونا، کو جان بوجھ کر کرنا، کو ارادۃً کرنا، کے قریب ہونا، کے پاس آنا، کے نزدیک جانا، اس طرح کہ دل میں ایک واضح مقصد ہو۔ ۔ ہ: کو دوسروں میں سے کسی کام کیلئے چُن لینا۔ ۔ ہ: کی تمنا کرنا، آرزو کرنا۔ ۔: اصطباغ لینا، بپتسمہ لینا۔ ماتعمدها باهانة: اس کے دل میں اس کی توہین کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ اس کی توہین کرنے پر تلا ہوا نہیں تھا۔ اِعْتَمَدَ بمعنی تَعَمَّدَ نیز اِعْتَمَدَ علی: کا سہارا لینا۔ ۔ ہ/ علی: پر تکیہ کرنا، پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ ۔ ہ/ علی: کو بطور بنیاد استعمال کرنا۔ ۔ ہ: سے کام لینا، کو استعمال کرنا، صرف کرنا، کو کام میں لانا، کو لگانا (جیسے مرہم لگانا، پاؤڈر لگانا) کو مستحکم کرنا، پکا کرنا، کی منظوری دینا، کی اجازت دینا، کا اختیار دینا۔ ۔ ل ہ: کو کچھ قرض دینا، ادھار دینا، عاریۃً دینا۔ عَمْد: ارادہ، مقصد، غرض، نیت، منشا، پہلے ہی سوچ سمجھ لینا، خود رائی، خود سری، ضد۔ عَمْدًا: قصدًا، جان بوجھ کر، دیدہ دانستہ، عمداً، ضد سے، خود سری سے، سوچے سمجھے ہوئے، منصوبہ کے مطابق۔ عَمْدِی: ارادی۔ عمدًا: بالارادہ، سوچا سمجھا ہوا، دیدہ دانستہ، قصداً کیا ہوا۔ عُمْدَہ: سہارا، پشت پناہ، آسرا، پیل پایہ، اصلی موضوع، بڑا مسئلہ، بنیادی مسئلہ جمع عُمَد: گاؤں کا نمبردار، کسی چھوٹی آبادی کا بڑا مجسٹریٹ، میئر (Mayor) صدر بلدیہ۔ عِماد جمع عَمَد: سہارا، آسرا، دیوار گیری، پشتہ، اڑواڑ، کھمبا، ستون، عِماد: بپتسمہ، اصطباغ۔ عَمِید جمع عُمَداء: سہارا، آسرا، سربراہ، سردار، (یونیورسٹی میں کسی شعبہ تعلیم کا) صدر، (کسی ثانوی سکول کا) پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، ڈائریکٹر (ڈپلومیٹک کور کا)، صدر، ہائی کمشنر (نیز العمید السامی: ہائی کمشنر)، ریذیڈنٹ جنرل، میجر، لیفٹیننٹ کمانڈر، کمانڈنگ جنرل، لیفٹیننٹ کرنل، عمید ثان: ایڈجوائنٹ میجر، عمیدة (طالبات کے ثانوی سکول کی) پرنسپل، ہیڈ مسٹریس، ڈائریکٹرس، عَمُود جمع اَعْمِدہ و عُمُد: جھنڈے کا کھمبا یا ستون، کھمبا، سہارا، آسرا، پیل پایہ، پشتہ، لیمپ کا کھمبا، (ٹیلیفون ٹیلیگراف کا) کھمبا، کالم۔ (اخباری) کالم۔ العمود الشوکی یا العمود الفقری: ریڑھ۔ عامود جمع عوامید بمعنی عَمُود عامود القیادة: سٹیئرنگ کالم، سٹیئرنگ میکانزم۔ عمودی: ستون دار، کھمبے جیسا، عمودی: Vertical سیدھا، (Perpendicular) قائمہ عمودیة: ہیلی کوپٹر، یوحنا المعمدان: بپتسمہ دینے والا یوحنا۔ تعمید: بپتسمہ۔ اصطباغ، نام دکھائی۔ مُتَعَمَّد: جان بوجھ کر، دیدہ دانستہ، سوچے سمجھے ہوئے منصوبہ کے مطابق۔ اعتماد علی: پر بھروسہ، دارومدار، انحصار، ۔: آسرا، سہارا، تصدیق، توثیق، منظوری: اجازت، اختیار۔ (سفارتی نمائندوں کو) بھیجنا، مختار کرنا، جمع اعتمادات: قرض، ادھار۔ الاعتماد علی النفس: خود اعتمادی کتب الاعتماد یا اوراق الاعتماد: (سفارتی نمائندوں کے) کاغذات نمائندگی۔ اعتماد اضافی: اضافی قرض، مُعْتَمَد: قابل اعتماد، معتبر، بھروسے کے لائق، سہارا، بھروسہ کی چیز، منظور شدہ، مختار امور، تسلیم شدہ، باقاعدہ مختار، کمشنر، با اختیار کارندہ، گماشتہ، کارکن، مقیم، سفارتی نمائندہ، ایلچی، قاصد، نمائندہ، روسی سرکاری محکمے کا افسر Comnissar، افسر محکمہ، صدر یا اہلکار (Commissary)۔ المعتمد السامی: ہائی کمشنر۔ معتمد قُنْصُلِی: قنصل کا ایجنٹ Consular agent۔ مُعْتَمَدِیَّة: چھوٹے درجے کا سفارت خانہ (Legation)

عمر: ۱۔ عَمَرَ ۔ عُمْرًا الدارَ: گھر تعمیر کرنا۔ اس کا اسم عِمارۃ ہے۔ ۔ المنزلُ باهله: گھر کا گھر والوں سے آباد ہونا۔ ۔ المنزلَ: گھر میں سکونت اختیار کرنا۔ صفت مفعولی: مَعْمُور۔ ۔ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ۔ عِمارۃَ اللّٰہُ منزلهُ: اللہ اس کے گھر کو آباد کرنا۔ ۔ ۔ ُ عُمُورًا و عَمارۃً و عُمْرًا نًا الرجلُ بیتهُ: آدمی کا اپنے گھر میں رہنا۔ ۔ و عَمُرَ ۔ ُ و عَمِرَ ۔ عَمارۃً المالُ: مال کا بہت ہونا۔ عَمَّرَ المنزلَ: گھر کو آباد کرنا۔ الثوبَ: کپڑے کو اچھا بنانا۔ اَعْمَرَ المنزلَ: گھر کو آباد کرنا۔ ۔ ہُ المکانَ: جگہ کسی کو آباد کرنے کیلئے دے دینا۔ ۔ الارضَ: زمین کو آباد پانا۔ ۔ علیه: کو مالدار بنانا۔ اِعْتَمَرَ المکانَ: کسی جگہ پر جانا، اس کی زیارت کرنا، کہا جاتا ہے۔ جاء فلانٌ مُعْتَمِرًا: فلاں زیارت کیلئے آیا۔ اتخذنا نادیا نعتمرہ: ہم نے بیٹھنے کے لئے کلب بنائی ہے۔ اِسْتَعْمَرَہٗ فی المکان: کو میں آباد کرنا۔ جیسے اِسْتَعْمَرَ اللّٰہُ عبادہ فی الارض: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زمین میں آباد ہونے کے لئے کہا۔ ۔ ت دولةٌ بلاد غیرها استعمارًا: ایک ریاست نے دوسری ریاست کو اپنی کالونی بنالیا۔ پہلی ریاست مستعمرة جمع مستعمرات کہلاتی ہے۔ جبکہ اس طرح دوسرے کے ملک کو اپنی کالونی بنانے والے کو

مُستَعمَرہ جمع مُستَعمِرون کہتے ہیں۔ مُستَعمَرۃ: کالونی، وہ ملک جس پر کسی دوسرے ملک نے قبضہ کر کے وہاں حکومت قائم کرلی ہو۔ الـعَـامِر (فا) جمع عُـمَّـار م عَـامِـرَۃ جمع عَـوامِـر: گھر کا رہنے والا، مـکـان عـامرٌ: آباد جگہ۔ کہتے ہیں: تـر کتهُمَ عـامرین بمكان كذا: میں نے ان کو فلاں جگہ آباد چھوڑا۔ عَـوامِرُ البیـوت: سانپ واحد عـامِـر وعامِرۃ ہے۔ العُمرَۃ جمع عُمَر و عُمُرات: آباد جگہ کا ارادہ کرنا۔ ـــ شرعًا: ایسے مخصوص کام جو حج اصغر کہلاتے ہیں یعنی احرام، طواف، صفا ومروہ کا طواف اور سر منڈانا۔ الـعُـمـران: آبادی، (سرگرمی، دوڑ دھوپ کی زندگی، پھلنا پھولنا، پنپنا، فروغ پانا (کسی ملک کا) گنجان آباد ہونا اور فروغ پانا۔ تہذیب، تمدن، ثقافت، عمارت)۔ الـعَـمَـارَۃ: بڑا محلّہ، قبیلہ، جنگی جہازوں کا بیڑہ۔ الـعِـمارۃ (مص): جس سے جگہ کی آبادی ہو۔ العُمارۃ عمارت بنانے کی مزدوری۔ الـعَـمَّـار: مبالغہ کا صیغہ۔ الـعُـمَّـار: عامر کی جمع، وہ جنّات جو مکانوں میں رہتے ہیں۔ مکانٌ عَمِیرٌ: آباد جگہ۔ ثـوبٌ عـمیـر: گاڑھا کپڑا۔ الـعَمِیـرَۃ جمع عَمَائِرُ: بڑا قبیلہ، شہد کا چھتہ۔ الاستعمار (مص): ایک ریاست کا دوسری ریاست کا یا اس کے کچھ حصے کا مالک بن بیٹھنا۔ المَعْمَر: آباد جگہ جہاں لوگوں کو پانی اور گھاس کی فراوانی ہو۔ الـمِعْمَاریّ جمع مِـعْمارِیّۃ: راج۔ معمار۔ الـمُـستَعمَرَۃ نوآبادی۔

۲۔ عَـمَـرَ ـُـ عَمَرَاهُ اللّٰہُ: اللہ کا کسی کو باقی رکھنا۔ ـــ ـُـ عُـمُـورًا و عَـمارَۃً وعُمْرَانًا تُہُ كذا: کو میں نے اپنی یا اس کی عمر بھر کے لئے دیدیا۔ عُـمْرًا و عَـمْرًا وعَمارَۃً وعَمِرَ ـَـ عَمَرًا و عَمْرًا و عَمارَۃً: لمبی عمر پانا، طویل عرصہ زندہ رہنا۔ عَمَرَہٗ ارضًا: کو عمر بھر کے لئے دے دینا۔ ـــ الرجُلُ: لمبی زندگی پانا، لمبا زمانہ زندہ رہنا۔ ـــ ہُ اللّٰہُ: اللہ کا کسی کو زندہ رکھنا۔ آپ کہتے ہیں: اَعْـمِـرُکَ اللّٰہَ ان تفعل كذا: میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہ کام عمر بھر کرتے رہنا۔ اَعْمَرَہٗ اَرْضًا: زمین کو کسی کو عمر بھر کے لئے دینا۔ الـعَـمْـر جمع اَعـمار: زندگی۔ الـعُـمُـر والعُمْر: زندگی، طویل زندگی، عربوں کے ہاں عمر کا اندازہ چالیس سال لگایا جاتا تھا۔ الـعَـمَّـار: پھول جن سے شراب کی محفل کو آراستہ کرتے ہیں۔ سلام۔ العَمارۃ: پھولوں کا دستہ جو بادشاہ کو سلام کرتے وقت پیش کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں (عَـمَّـرَكَ اللّٰه)۔ العَمَّار: مرنے تک امر ونہی پر قائم رہنے والا۔ اچھی تعریف والا، محمود الصفات۔ الـعُـمْـرَی: وہ چیز جو کسی کو عمر بھر کے لئے دیدی جائے۔ اَعْمَرَ سے اسم۔ کہا جاتا ہے۔ اَعْمَرْتُہُ الـدارَ الـعُـمْـرَی: میں نے گھر اس کو دیدیا وہ اس میں میری عمر تک رہے یا اپنی عمر تک رہے۔

۳۔ عَـمَـرَ ـِـ عَـمْرًا و عِمارَۃً ربَّہٗ: اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، خدمت کرنا، روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا۔ الـعَـمْر جمع اَعْـمار: دین، قسم کھاتے وقت کہتے ہیں لَعَمْرِی: میرے دین کی قسم۔ لَعَـمْـرُ اللّٰہِ وعَمْرَ اللّٰہِ: اللہ کی قسم۔ عَـمْـرَ اللّٰہ ما فعلتُ كذا: اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا۔ الـعُـمُـر: مسجد، یہودی معبد، کلیسا، العَمْر (مص): دین۔ العَمَّار مضبوط ایمان والا۔

۴۔ اِعْتَمَرَ الرجلُ: پگڑی باندھنا۔ العَمَر: عورتوں کا سر ڈھانکنے کا رومال۔ العُمْرَۃ: تاج، پگڑی وغیرہ جو سر پر رکھی جائے۔ الـعَـمَـارَۃ (مص): سر پر رکھی جانے والی ہر چیز جیسے تاج، پگڑی وغیرہ۔

۵۔ الـعَـمْـر جمع عُـمُور: دانتوں کے درمیان کا گوشت۔ العُمْران: حلق کے کوے کے دو جانب لٹکا ہوا گوشت۔ الـعُـمْـہ: دانتوں کے درمیان کا گوشت۔ عُـمَـرُ: اسم عَـلَـم ہے اور غیر منصرف ہے۔ الـعُـمَران: ابوبکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عَـمْرُو جمع عَـمْـرُون واَعْـمُرٌ وعُـمُـور: اسم عَـلَـم۔ اس کے آخر رفع اور جر کی حالت میں واو ہوتی ہے تاکہ عَـمْـرُو اور عُـمَـر میں تفریق ظاہر ہو۔ ام عَـمْـرو (ح): بجو کی کنیت۔ ابو عَمْرَۃ: بھوک اور افلاس کی کنیت۔ العَامِر (ح): بجو کا بچہ۔ ام عـامِر (ح): بجو۔ الـعَـمَـارَۃ: مزین کپڑے کا ٹکڑا جو خیمہ میں لگاتے ہیں۔ العَمَّار: متحمل مزاج۔ الیَعْمُور جمع یَـعَـامِیر (ح): بکری کا بچہ۔ چھوٹی بھیڑ۔

۶۔ الـعُـمْـرُوط جمع عَـمَـارِط و عَـمَارِیط و عَـمَارِطَۃ: چور، سرکش۔ العَمَرَّط: نیک جوان، بہادر، بلا، مصیبت۔

○ عَمَرَ ـُـ عَمْرًا و عُمْرًا: لمبی عمر پانا۔ ـــ ـُـ و عَمُرَ ـُـ عَمارَۃً: پھلنا، پھولنا، پنپنا، بہار پر آنا، آباد ہونا، مہذب، متمدن ہونا، شائستہ ہونا، بھرا ہوا ہونا۔ عَـمَّـرَ ـــ ہ: کو زندگی سے بھر دینا، کو پھلنے پھولنے دینا، با فروغ بنانا۔ ـــ ہ: میں رہنا، سکونت رکھنا، بود و باش رکھنا۔ ـــ جوانحہ کے دل میں رچ بس جانا، کے دل میں حکومت کرنا، کے دل پر طاری ہونا۔ ـــ ہ: کو تعمیر کرنا، بنانا، دوبارہ بنانا، کو مرمت سے بالکل پہلا سا بنا دینا۔ عَـمَّـرَہٗ: کو زندہ رہنے دینا، کو زندہ محفوظ رکھنا، کی عمر دراز کرنا، کو لمبی عمر دینا (اللہ تعالیٰ کا)۔ ـــ ہ: کو آباد کرنا ـــ ہ: کو بنانا، مرمت کرنا، کو مرمت کر کے پہلے جیسا بنا دینا۔ ـــ ہ ب: کو کوئی چیز فراہم کرنا۔ کو کچھ مہیا کرنا، کو سے بھرنا۔ ـــ ہ (بندوق) لوڈ کرنا، (پائپ) بھرنا۔ (فارم، خالی خانہ) پر کرنا۔ ـــ وَقْتَہٗ: کا وقت لینا۔ اَعْمَرَ ہ: کو آباد کرنا۔ ـــ عمرہ کرنا، اِعْتَمَرَ: عمرہ کرنا۔ اِسْتَعْمَرَہٗ فی: کو میں آباد کرنا۔ ـــ ہ: کو نو آبادی بنانا۔ (کسی ملک کو) نو آبادی بنالینا۔ عُـمْـر (قمون میں عَـمْـر) جمع اَعـمـار: زندگی، زندگی کا عرصہ، عمر (کسی شخص کی) لَعَـمْـرِی: میری زندگی کی قسم۔ لَعَمْرُ اللّٰہ: اللہ کی ہمیشہ رہنے والی ذات کی قسم ازلی اور ابدی خدا کی قسم۔ ذاتُ الـعُـمْـرَیْن: جل تھلیا، جل بھوتیا (Amphibian) عُمْرُہٗ عشرین سنۃ: اس کی عمر بیس سال ہے۔ عَـمْـرَۃ: سر کا لباس (جیسے پگڑی) مرمت، مرمت کا کام عُـمْـرَۃ: مکہ معظمہ کا حج جو سال کے کسی خاص حصہ میں ادا کرنا ضروری نہیں اور چند رسومات پر مشتمل ہے۔ عُمْرِی: زندگی بھر کا عطیہ عَمَارۃ: (بحری) بیڑا۔ عِـمـارۃ جمع عِـمارات و عـمـائـر: عمارت، بلڈنگ، شاندار عمارت، تعمیر (Structure)۔ غیر منقولہ جائیداد، قطعہ اراضی۔ الـعِـمَارۃ یا فن العِمارۃ یا هَـنْـدَسَۃُ العِمارۃ: فن تعمیر، طرز تعمیر، عُـمرانی: تہذیبی، تمدنی، ثقافتی، ثقافتی ترقی کے متعلق ثقافتی ترقی کا کام دینے والا۔ عَـمَّـارِیۃ: جنگ میں اونٹ پر رکھی ہوئی پالکی جس میں دلہن سوار ہو۔ اَعْـمَر: زیادہ آباد، زیادہ مہذب، زیادہ متمدن، زیادہ پھلنے پھولنے اور پنپنے والا، مِـعْـمَـار: راج، معمار، ماہر تعمیرات، عمارتیں بنانے والا۔ مِـعْماری: عمارتی، تعمیراتی، جمع مِـعْـمَـارِیَّۃ: عمارتیں بنانے والا، معمار، ماہر تعمیرات، مهندس معماری: عمارتیں بنانے والا، معمار، ماہر تعمیرات، الفن المعماری: فن تعمیر۔ تَـعْـمِیر: بنانا، تعمیر کرنا، کھڑا کرنا، مرمت کر کے پہلا جیسا بنا دینا، مرمت، دوبارہ تعمیر، پر کرنا، خانہ پری کرنا۔ اِسـتـعـمار: نو آبادیاں بنانا۔ نو آبادیوں کی بنیاد۔ سامراجی استحصال، سامراج، استعمار استعماری: سامراجی، استعماری اِسْـتِـعْـمَـارِیّۃ: ملوکیت پسندی، سامراجیت، عَـامِر: آباد، پر، بھرا ہوا، پر کیا ہوا۔ ـــ ب: سے اٹا ہوا، سے پر ہجوم۔ ـــ: شاندار طور پر آراستہ۔ زیر کاشت (زمین)، پنپتا، پھلتا، پھولتا، عـامِـر بالامل: پر امید۔ عـامِرُ الجیب: بھری ہوئی جیب والا۔ عـامِـر الـذمۃ ب: کا پابند، ذمہ دار، کا احسان مند، شکر گزار، ممنون۔ عـامِر الـنفس ب: کے وہم میں مبتلا جس پر کا سایہ ہو۔ امُّ عـامر: چرخ، لکڑ بگڑ۔

نہود عامِرة: شہوت انگیز سینے، مَعْمُور: آباد۔ المَعْمُور یا المَعْمُورة: آباد دنیا۔ فی کل انحاء المعمور (المَعْمُورة): تمام دنیا میں، دنیا بھر میں۔ مُعَمِّر جمع مُعَمِّرُون: آباد کار۔ مُسْتَعْمِر: نو آبادیاتی، استعماری، سامراجی، آباد کار، غیر ملکی فاتح، حملہ آور۔ ملوکیت پسند، سامراجی، سامراج کا حامی۔ مُسْتَعْمَرة جمع مُسْتَعْمَرات: نو آبادی۔ مُسْتَعْمَرة مُسْتَقِلَّة: مستقل نو آبادی۔

عمس: عَمَسَ ـُ عَمْسًا الكتابُ: تحریر کا مٹ جانا۔ ـ الامرَ: کے بارے میں دیدہ دانستہ جاہل بننا، تجاہل عارخانہ کرنا۔ ـ واَعْمَسَ الشَّيءَ: کو چھپانا۔ عَمِسَ ـَ و عَمُسَ ـُ عَمْسًا وعَمَسًا و عُمُوسًا و عَمَاسَةً اليومُ: دن کا سخت ہونا، تاریک ہونا۔ عَامَسَ مُعَامَسَةً هُ: کو راز بتانا، سے دشمنی چھپانا۔ تَعَامَسَ: تغافل برتنا۔ ـ عنه: کو نہ جاننے والا ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ تَعَامَسَ علَى فلانٌ: اس نے مجھے شبہ میں رکھا العَمْس والعَمِيس: مشکل کام۔ حربٌ عَمِيسٌ: سخت لڑائی۔ العَمَاس: مشکل کام۔ ـ جمع عُمُس و عُمْس: طاقتور شیر، مصیبت۔ يوم عَمَاسٌ: سخت دن۔ حربٌ عَمَاسٌ: سخت لڑائی۔ ليلٌ عَمَاسٌ: سخت تاریک رات العَمُوسُ: مشکل کام۔ ـ والمُعَامِس: وہ شخص جو کاموں کو بے باکانہ کرے، جیسے ناوان کرتا ہے۔ امرٌ مُعَمَّسٌ: سخت کام۔

عمش: عَمَشَ ـُ عَمْشًا هُ: کو بلاقصد مارنا۔ ـ الولدَ: لڑکے کی ختنہ کرنا۔ عَمِشَ ـَ عَمَشًا فيه الكلامُ: پر کلام کا اثر کرنا۔ ـ ت عينُهُ: کی آنکھ کا کمزور ہونا، چندھا ہونا، اکثر اوقات آنسو بہتے رہنا۔ صفت اَعْمَش م عَمْشاء جمع عُمْش، عَمَّشَ هُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کے چندھے پن کو دور کرنا۔ ـ و تَعَامَشَ عن الشئ: سے غافل ہونا۔ اِسْتَعْمَشَ هُ: کو بے وقوف سمجھنا۔ العُمْشُوش جمع عَمَاشِيش: وہ انگور کا خوشہ جس میں سے کچھ دانیں کھا لئے گئے ہوں۔ عام لوگ اسے عُرْموش یا عُمْلوش کہتے ہیں۔

عمط عَمَطَ ـُ عَمْطًا و اعْتَمَطَ عِرضَهُ: پر عیب لگانا، کی بے آبروئی کرنا۔

عمق: ا۔ عَمُقَ ـُ عُمْقًا و عَمَاقَةً ت البئر ونحوها: کنویں وغیرہ کا گہرا ہونا۔ صفت عميقة جمع عَمَائِق۔ (عام لوگ غَمِقَ کہتے ہیں۔ صفت غَمِيق م غَمِيقة) ـ و عَمِقَ ـَ عُمْقًا و عُمَاقَةٌ المكانُ او الطريقُ: جگہ یا راستہ کا دور، کشادہ اور لمبا ہونا۔ صفت عَمِيق جمع عِمَقَ و عُمُق و عِماق عَمَّقَ وأَعْمَقَ واَعْتَمَقَ البئرَ: کنویں کو گہرا کرنا، کہا جاتا ہے: عَمَّقَ النظرَ في الأمور: اس نے معاملات پر گہری نظر ڈالی۔ تَعَمَّقَ في الامر: معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ ـ في كلامه: خوب چرب زبانی سے بات کرنا۔ العَمْقَ والعُمْقَ جمع اَعْمَاق: گہرائی، جو جنگل کے اطراف سے دور ہو۔ العُمُق جمع اَعْماق: گہرائی۔ العَمَقَة: برتن یا مشک کی تہہ میں گھی کا میل۔ رجُل عُمُقِيُّ الكلام: گہری بات کہنے والا۔

۲۔ العَمَق: حق۔ استحقاق، کہا جاتا ہے۔ لهُ فِيه عَمَقٌ: اس کے لئے اس میں حق و استحقاق ہے۔

○ عَمُقَ ـُ عُمْقًا و عَمَاقَةً: گہرا ہونا یا ہو جانا۔ (نیند، دلچسپی، سوچ، علم وغیرہ کا) گہرا ہونا۔ عَمَّقَ ہ: کو گہرا کرنا، زیادہ گہرا کرنا، اَعْمَقَ بمعنی عَمَّقَ۔ تَعَمَّقَ ہ / في: (بات وغیرہ کی) تہہ کو پہنچنا، میں گہرائی تک جانا، میں منہمک یا مستغرق ہونا۔ عَمْق و عُمُق جمع اَعْمَاق: گہرائی، تبحر، تہہ، مِن اَعماق قلبه: تہہ دل سے، روح کی گہرائی سے۔ مِن اَعْماق النفس: تہہ دل سے، روح کی گہرائی سے۔ عَمِيق: گہرا، گہرا (احساس)، گہری، گہرا (سوچ، فکر، علم، راز، مفاد، نیند)۔

عمل: ا۔ عَمِلَ ـَ عَمَلاً: کام کرنا، محنت کرنا۔ ـ للامير على بلاد: ملک کا عامل یا حاکم ہونا۔ ـ عَلَى الصَّدَقة: صدقہ جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ عَمَّلَ هُ: کو اجرت دینا۔ ـ هُ على البلد: کو ملک کا عامل یا حاکم بنانا، کہا جاتا ہے۔ عُمِّلَ فلانٌ عَلَيْهِم: فلاں کو ان پر حاکم بنایا گیا۔ عَامَلَ مُعَامَلَةً هُ: کو عمل کی تکلیف دینا، سے معاملہ کرنا۔ اَعْمَلَ هُ: کو عامل یا حاکم بنانا۔ ـ الآلَةَ او الرَّأيَ: آلہ یا رائے کو استعمال کرنا، پر عمل کرنا۔ ـ الرجُلَ: کو اجرت دینا۔ تَعَمَّلَ لكذا: کے لئے بہت کوشش کرنا۔ ـ من اجلِ فلان او في حاجته: فلاں کیلئے یا اس کی ضرورت کے بارے میں کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، کاوش کرنا، تن دہی سے کوئی کام کرنا۔ تَعَامَلَ القومُ: ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اِعْتَمَلَ: کام میں مضطرب ہونا، اثر قبول کرنا، اپنے لئے کام کرنا۔ اِسْتَعْمَلَ هُ: کو عامل یا حاکم بنانا، کو کام کرنے کیلئے کہنا۔ ـ الآلَةَ: آلہ استعمال کرنا۔ ـ الثوبَ: کپڑا استعمال کرنا۔ اُسْتُعْمِلَ فلانٌ: شاہی کام میں سے کسی کام پر متعین ہونا۔ العَمَل (مص) جمع اَعْمَال: ارادہ سے کیا جانے والا فعل ـ و العَامِلِيَّة جمع اَعْمَال: وہ جس پر عامل والی ہو۔ اَعْمَالُ البَلَد: ملک کے مضافات۔ العَمِل: کاریگر۔ قابل کام کرنیوالا، خوگر عمل۔ العَمِلَة: عَمِل کا مونث۔ جو کیا جائے۔ العَمْلَة: ایک بار کا کام۔ العِمْلَة: عمل کی ہیئت۔ جو کام کیا جائے۔ ـ و العُمْلة: کام کی اجرت، عام لوگ اسے نقود کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ رديءُ العُمْلَة: فلاں معاملہ کا کھوٹا ہے۔ العَامِل (فا) جمع عُمَّال وعَامِلون وعَمَلَة: ہر ہاتھ سے کام کرنے والا، جو کسی کے مالی امور، جائیداد اور کام وغیرہ کا متولی ہو۔ سردار، والی حاکم۔ العَامِلَة جمع عَامِلات و عَوَامِل: عامل کا مونث: العَوَامِل: پاؤں، کھیتی اور گاہنے کے بیل۔ العَمَّال م عَمَّالة: عامل کا صیغہ مبالغہ۔ العِمَالَة: کام کرنے والے کا پیشہ۔ ـ والعَمَالة والعُمَالة: کام کرنے والے کی اجرت اور رزق، عام لوگ عُمُولَة کہتے ہیں۔ اسے کمشن بھی کہا جاتا ہے۔ العَمُول: کام کرنے والا، پیدائشی کام کرنے کا خاصہ رکھنے والا، خوگر عمل۔ العَمِيل جمع عُمَلاء (ت): ایجنٹ، آڑھتی، شریک عمل۔ المَعْمَل جمع مَعَامِل: کارخانہ، کام کرنے کی جگہ۔ المُعَامَلات: کاروباری معاملات وہ شرعی احکام جن کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو، جیسے خرید و فروخت کے احکامات۔ المَعْمُول (ط): میدہ، گھی اور چینی سے تیار کردہ کیک واحد معمولہ۔ المُسْتَعْمَل (مفع): استعمال کیا ہوا، بنایا ہوا۔ اليَعْمَل واليَعْمَلَة جمع يَعَامِل ويَعْمَلات: اونٹ اور اونٹنی جو کام کرنے کی خوگر ہوں۔

۲۔ عَمِلَ ـَ عَمَلاً تِ الكلمةُ في الكلمة: ایک کلمہ کا دوسرے کلمہ میں اثر کرنا، کو اعراب دینا۔ اَعْمَلَ الكلمةَ في الكلمةِ: کلمہ کو دوسرے کلمہ پر عامل بنانا۔ العَامِل عند النحاة: نحویوں کے نزدیک۔ دوسرے کلمہ پر اثر انداز ہونے والا جیسے قَامَ الولد میں قَامَ۔

۳۔ عَمِلَ ـَ عَمَلاً البرقُ: بجلی کا لگاتار چمکنا۔ برقٌ عَمِلٌ: لگاتار چمکنے والی بجلی۔

۴۔ اَعْمَلَ الرمحَ: صدر نیزہ سے مارنا۔ عامِلُ وعَامِلَةُ الرمح: نیزے کے پھل کے قریب کا حصہ۔ صدر نیزہ

۵۔ العَمْلَة: خیانت، چوری۔

○ عَمِلَ ـَ عَمَلاً في: (کسی شعبہ میں کام کرنا، سرگرم ہونا۔ ـ ہ: کو بنانا، وجود میں لانا، تخلیق کرنا، کرنا، بجا لانا، عمل میں لانا، ـ ب: کے مطابق، کی بنیاد پر کرنا، کو چلانا، ـ علی: کا یا کیلئے منصوبہ بنانا، کی تدبیر نکالنا یا

کرنا، کا بندوبست کرنا، انتظام چلانا، جتن کرنا، کو انجام دینے بجالانے یا پورا کرنے کی کوشش کرنا، کے حصول کے پیچھے لگا رہنا، کو حاصل کرنے کیلئے جدوجہد کرنا۔ — ل / علی: پر تلا ہونا، کے لئے سخت کوشش کرنا، کی کاوش کرنا، کو تن دہی سے کرنا۔ — علی: کو کرنے کیلئے بڑی محنت اور کوشش کرنا، میں سرگرم ہونا۔ — فی: کو بنانا، کو کرنا، پر عمل کرنا، کو کام میں لانا، استعمال کرنا، پر اثر انداز ہونا۔ یُعمَل بہ: یہ قانونی یا معقول ہے، موثر یا اثر آفرین ہے، نافذ (العمل) ہے، عمل ترتیبات: انتظامات یا تیاریاں کرنا، عمل اعمالہ: کے جیسے کام کرنا، کا سا رویہ اختیار کرنا کی طرح پیش آنا۔ لا بہ یُعمَلُ ولا عَلَیہِ یُعوَّلُ: کالعدم۔ عَمَّل ہ علی: کو کا یا پر حاکم مقرر کرنا، —: (زخم کا) خراب ہو جانا، ناسور بن جانا، (زخم میں) پیپ پڑ جانا، عَامَل ہ ب: سے کے انداز میں سلوک کرنا، برتاؤ کرنا۔ — ہ: کے ساتھ تجارت کرنا، کاروبار کرنا۔ — ہ بالمثل: سے ویسا ہی سلوک یا برتاؤ کرنا، اَعمَلَ ہ کو بنانا، چلانا، کو کرنا، استعمال کرنا، صرف کرنا۔ — ہ فی / ب کو کسی دوسری چیز کے بارے میں بڑے بے ڈھنگے پن سے مرمت کرنا۔ اَعمَلَ الفکر سوچنا، غور کرنا۔ اَعمَلَ السیفَ فی رقابھم: کا قتل عام کرانا۔ تعَمَّل سخت پریشانی سے دوچار ہونا، سخت محنت اور کوشش کرنا۔ تعَامَل: ایک دوسرے سے تجارت کرنا، کاروبار کرنا، — مع: کے ساتھ کاروبار کرنا، تجارت کرنا۔ اِعتَمَل: کام کرنا، سرگرم ہونا، استعمل ہ کوئی چیز لگانا، استعمال کرنا۔ — ہ کو کام پر لگانا، کو ملازم رکھنا، — ہ علی: کو گدی پر بٹھانا، مسند نشین کرنا، کو کا سربراہ بنانا۔ استعمل معہ وسائلَ القسوۃ: اس نے اس کے خلاف شدید اقدامات کئے۔

عن ا۔ عَنْ: حرف جر ہے اور ذیل کے معانی دیتا ہے:۔

۱۔ مجاوزت: جیسے سر جَل عن مکان فیہ ضیم: ایسی جگہ سے چل دے جہاں ظلم ہوتا ہو۔

۲۔ بدل جیسے یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئاً: وہ دن جس روز کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے گا۔

۳۔ تعلیل: جیسے مافعل ذلک الاعن اضطرار: اس نے ایسا مجبوری کی وجہ سے کیا۔

۴۔ بعد: جیسے عن قلیل تدری: تجھے تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گا۔

۵۔ استعلاء: جیسے احببتُ الاحسان الی الفقراء عن کثرۃ الصلاۃ: میں نے فقیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو نماز کی کثرت پر ترجیح دی۔

۶۔ ب کی مرادفت: وما ینطق عن الھوی: وہ خواہش نفسانی سے نہیں کہتا۔

۷۔ عن: جانب کے معنی میں اسم اس وقت اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے۔ جیسے جلس من عن یسار الخلیفۃ وہ خلیفہ کی بائیں سمت بیٹھا۔

عَنَّ: ا۔ عَنَّ ـُ عَنًّا و عَنَناً و عُنُوناً لہُ الشئُ: کے سامنے ظاہر ہونا، کے پاس جانا، اپنے آپ کو کے سامنے پیش کرنا۔ کہا جاتا ہے: لا افعلہ ما عنّ نجمٌ فی السماء: میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک کوئی ستارہ آسمان میں ظاہر نہ ہوگا۔ — عَنَ الشئَ: سے اعراض کرنا۔ — فلاناً: کو گالی دینا۔ — اللجام لگام میں ڈور لگانا۔ — الفرس گھوڑے کو لگام سے روکنا۔ عَنَنَ اللجام: لگام میں دوڑ لگانا۔ عَانَّ مُعَانَّۃ و عِنَاناً ہ: کا آمنا سامنا کرنا، کی مخالفت کرنا۔ اَعَنَّ اللجام: لگام میں ڈور لگانا۔ — الفرس گھوڑے کو لگام سے روکنا۔ اِعتَنَّ لہ الشئُ: کے سامنے ظاہر ہونا۔ العَان (فا) لمبی رسی، پھیلا ہوا بادل۔ العَانَّۃ: عان کا مونث، بادل۔ العَنَنُ سامنے آنے والی شئے۔ العُنَّۃ جمع عُنَن: رسی، اونٹوں اور گھوڑوں کیلئے لکڑیوں کا باڑہ۔ العَنَان: بادل۔ عَنَانُ السماء: آسمان کا نظر آنے والا حصہ، افق عَنَانُ الدار: گھر کا کنارہ۔ العَنَانَۃ: بادل کا ایک ٹکڑا۔ العِنَان (مص) دکھائی دینے والی چیز۔ — جمع اعنّۃ وعُنُن لگام کی رسی کہا جاتا ہے: ذل عِنانُہُ وہ تابع ہو گیا۔ ھما یجریان فی عنان: دونوں فضیلت وغیرہ میں برابر ہیں۔ ھو قصیرُ العِنان وہ بے خیر شخص ہے۔ رجُلٌ طویلُ العِنان: شریف مرد۔ رجُلٌ آبیُّ العنان: خوددار۔ اِمتلأ عِنانُہُ: وہ اپنی کوشش کو پہنچ گیا۔ جری الفرسُ عِناناً: گھوڑے نے ایک چکر لگایا۔ کبا الفرسُ فی عِنَانِہِ: گھوڑا اپنے چکر میں ٹھوکر کھا گیا۔ ارخ من عنانہ لگام کو ڈھیل دیدو۔ شِرکۃ العِنان دو آدمیوں کی کسی خاص مال میں شرکت، کہا جاتا ہے۔ عُنَانَاک ان تفعل کذا: تم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو۔ العَنَّان بہت سبقت لیجانے والا۔ الاَعنَان: درختوں کے اطراف، درختوں کی چوٹی۔ اعنانُ السماء: آسمان کے اطراف۔ افق۔ المِعَنّ م مِعَنَّۃ ہر یا غیر متعلق باتوں میں دخل دینے والا، اچھا مقرر۔ المَعنُون مجنون، پاگل، دیوانہ۔

۲۔ عَنَّ ـِ عَنًّا وعَنَناً و عُنُوناً و عَنَّ الکتاب کتاب کا عنوان لکھنا۔ عَنیَتُ الکتابَ بھی کہتے ہیں۔ ایک نون کو یاء سے بدل دیتے ہیں۔

۳۔ العُنَّۃ جمع عُنَن: ہانڈی رکھنے کا چولہا۔

۴۔ عَنعَنَ عَنعَنَۃً ہمزہ کو عین کی طرح پڑھنا۔ بنی تمیم میں عنعنۃ تھا چنانچہ وہ کہا کرتے تھے یعجبنی عن تفعلَ کذا یعنی یعجبنی أن تفعل کذا۔ — الراوی: روایت کو عن فلان عن فلان کہہ کر بیان کرنا۔ عوامی زبان میں کہا جاتا ہے: عَنَّ المریض۔ یہاں عن بمعنی انَّ ہے۔ یعنی مریض کا کراہنا اور عنین یعنی انین (کراہنا) ہے۔

○ عَن یمینہ: کے دائیں (جانب، طرف) ہاتھ، علی ارتفاع الف قدم عن سطح البحر: سطح سمندر سے ایک ہزار فٹ بلند۔ عن طریقِ —: براہ، کے راستہ سے، کے ذریعے۔ الیک عَنّی: مجھ سے دور ہو۔ عن امرہ: کے حکم پر۔ کی ترغیب، تحریک یا انگیخت سے، کے کہنے پر۔ عن بصیرۃ: دانستہ، صورت حال سے پوری طرح آگاہ۔ عن حسن نیّۃ واقعی خلوص سے، نیک نیتی سے، خلوص سے، صدق دلانہ۔ عن حق: انصاف سے، جائز اور حق کے طور پر۔ عن خوف: خوف سے۔ عن علم، عن درایۃ: صحیح علم کی بنیاد پر، صورتحال سے کامل آگاہ ہوتے ہوئے۔ عن سرور: خوشی سے، بمسرت۔ عن قناعۃٍ وجدانیۃ: قطعی اندرونی یقین سے، عن قریب، عما قریب عن قلیل و عما قلیل: جلدی، ابھی، تھوڑی دیر میں، تھوڑی دیر بعد۔ عن وساطۃ فلان: کی مدد سے یوماً عن یوم دن بدن۔ قُتِلُوا عن آخرھم: ان کا آخری آدمی تک قتل کر دیا گیا۔ مات عن ثمانینَ سنۃً اسی سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی۔ مات عن ترکۃ کبیرۃ: وہ بہت سی دولت چھوڑ کر مرا۔ عَنَّ ـُ عَنًّا و عنناً ل اپنے آپ کو کے سامنے پیش کرنا۔ کے دل میں صورت پذیر ہونا، ظہور میں آنا۔) کسی رائے کا) آنا، کے سامنے آنا۔ عنَّ لہ أن: خیال آیا کہ...... عُنَّۃ: نامردی۔ عَنَانٌ (اسم جنس واحد عنانۃ) بادل۔ عِنان جمع اَعِنَّۃ: باگ، لگام، لگام مع دھانہ۔ اَطلَقَ لہ العنان کو کھلی چھٹی دینا، جرت الامور فی اَعِنَّتِھا امور کا عام راستہ اختیار کرنا، پروگرام کے مطابق پایہ تکمیل کو پہنچنا۔ عنین نامرد۔

عنب ا۔ عَنَبَ الکرمُ انگور کی بیل میں انگوروں کا آنا۔ العِنَب (واحد عِنَبَۃ) جمع اَعنَاب انگور۔ عنب الثعلب: مکو۔ عنب الحیّۃ: طبی فوائد کا جنگلوں میں اگنے والا ایک پودا۔ عنبُ الذّئب ایک پودا جو کھالیں رنگنے اور طب میں استعمال ہوتا ہے۔

الْعِنَبِيَّة: انگور اور کشمش جیسا ایک پھل۔ (ن) ایک لذیذ پھل دار پودا۔ الْعُنَّاب (واحد عُنَّابة) عُنّاب۔ الْعَنّاب: انگور فروش۔

۲۔ الْعُنَاب و الاَعْنَب: بڑی ناک والا۔

۳۔ عَنبَرَ الشیئَ: کو عنبر سے خوشبودار کرنا۔ الْعَنْبَر: ایک قسم کی خوشبو۔ زعفران — جمع عَنَابِر: غلہ کا گودام۔ (ح) ایک بڑی قسم کی مچھلی۔ — عَنْبَرُ الشتاء و عَنْبَرتُهُ: سردی کی شدت۔ الْعَنْبَرِیّ: عنبر سے معطر کی ہوئی شراب۔

○ عنبری: کبوتر کی ایک قسم، عنبری و نبیذ عنبری: عنبر سے معطر کی گئی شراب۔ عَنْبر جمع عَنَابر: گودام، ذخیرہ، مخزن۔ اسلحہ خانہ، ڈیپو، بڑی دکان، کارخانہ کا بڑا کمرہ، بحری جہاز کا گودام، (ہسپتال کا) وارڈ۔ بحری جہاز کے عملہ کے کواٹر، بیرکیں۔

عنت ۱۔ عَنِتَ ـَ عَنَتًا: دشواری میں پڑنا، مصیبت میں پڑ کر ہلاک ہونا۔ عَنَّتَ هُ: پر سختی کرنا۔ ایسے کام پر مجبور کرنا جس کا کرنا مشکل ہو اور برداشت سے باہر ہو۔ — فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ اَعْنَتَ الراکبُ الدابَّة: جانور پر سختی سے اتنا بوجھ لادنا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ — الرجُل: کو ہلاکت میں ڈالنا، ایسے کاموں میں ڈالنا جن کو کرنا اس کے لئے مشکل ہو۔ تَعَنَّتَ هُ: کو تکلیف پہنچانا۔ کی مشقت کا خواہاں ہونا۔ — الرجُل و علیه فی السؤال: سے پریشان کن خلط ملط سوال کرنا۔ العَنُوت: ٹیلہ جس پر چڑھنا دشوار ہو۔ المُتَعَنِّت: ضدی۔ منہ زور۔ ہٹ کا پکا۔ ہٹ دھرم۔ کہتے ہیں: ارضاءُ المُتَعَنِّتِ صعب: ضدی شخص کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔

۲۔ عَنِتَ ـَ عَنَتًا: گناہ کرنا۔ — الشیُٔ: چیز کا خراب ہو جانا۔ — العظمُ: ہڈی کا درستی کے بعد ٹوٹ جانا صفت: عَنِت، عَنَّتَ الشیَ العظمَ المجبورَ: درست شدہ ہڈی کو توڑ دینا۔ اَعْنَتَ الجابرُ الکسیرَ: ہڈی جوڑنے والے کا ٹوٹی ہوئی ہڈی کی اچھی طرح دیکھ بھال نہ کر کے زیادہ خراب کر دینا۔

۳۔ عَنْتَرَ عَنْتَرةً: لڑائی میں بہادری کرنا۔ — هُ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ — العُنْتَر: مکھی کا بھنبھنانا۔ العَنْتَر و العُنْتَر و العُنْتُر (واحد عَنْترة (ح) مکھی، نیلی مکھی۔

○ عَنِتَ ـَ عَنَتًا: کے برے دن آنا، مصیبت میں پڑنا، سختی دیکھنا، گناہ کرنا، خصوصاً زنا کرنا۔ عَنَّتَ هُ: کو مشکل کام کرنے پر مجبور کرنا۔ اَعْنَتَ هُ: کو تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا، پر سختی کرنا، سے سخت سلوک کرنا سے برا برتاؤ کرنا۔ تَعَنَّتَ هُ: کو پریشان کرنا۔ کو تکلیف پہنچانا، پر دباؤ ڈالنا، کو جان بوجھ کے چھیڑنا، کو سوالات کے ذریعے پریشان کرنے کا جویا ہونا۔ — — مع: کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ تَعَنُّت: ضد کرنا، ہٹ دھرمی کرنا، منہ زوری سے اصرار کرنا۔ عَنَت: سختی، مشکل، عسرت، مفلسی، ایذا، دکھ تکلیف، رنج والم، مصیبت، قہر، بپتا، نکبت، سخت غربت، پریشانی، دباؤ، مجبوری، جبر۔ اِعْنَات: اذیت، پریشانی، چھیڑ چھاڑ، حیلہ بازی، دباؤ، جبر، مجبوری۔ تَعَنُّت: ضد، ہٹ دھرمی، منہ زوری، منہ زور جوش، اصرار۔ عَنْتَرَ: مردانگی کا مظاہرہ کرنا۔ عَنْتَر: عنتر مشہور فتوت کی داستان کا ہیرو۔ عَنْتَری: عنتر کی داستان کا عوامی قصہ گو۔ عَنْتَری جمع عَنَاتِر: انگیا، باڈی، چولی، سینہ بند۔ عَنْتَرِیّة: عنتر، عنتر کی داستان۔ عنتر کے کارناموں کی کہانیوں کا سلسلہ۔

عنث: العَنْثة و العُنْثة و العِنْثة جمع عِنَاث و العَنْثُوَة و العُنْثُوَة جمع العَنَاثی: ایک مخصوص گھاس جبکہ وہ خشک اور سیاہ ہو جائے۔

عنج ۱۔ عَنَجَ ـِ عَنْجًا و عَنَّجَ الشیَ: کو کھینچنا۔ — الدلوَ: ڈول کو رسی سے باندھنا۔ العِنَاج جمع اَعْنِجَة و عُنُج: درد پشت، بڑے ڈول کے نیچے باندھی جانے والی رسی۔

۲۔ عَنْجَرَ عَنْجَرَةً: ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔ العُنْجُورَة: شیشی کا غلاف۔

○ عُنْجُهِیَة: غرور، کبر، نخوت، خود بینی۔

عند ۱۔ عَنَدَ ـُ عُنُودًا عن اصحابه: سفر میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جانا، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا، یا ان سے پیچھے رہ جانا۔ — ـِ و عَنِدَ ـَ و عَنُدَ ـُ عُنُودًا عن الطریق او القصد: راستہ یا ارادہ سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا۔ — الرجُلُ: جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرنا۔ صفت عَنِید جمع عُنُد۔ — العِرْقُ: رگ سے لگاتار خون بہنا۔ عَانَدَ مُعَانَدَةً و عِنَادًا هُ: سے علیحدہ ہونا، کی مخالفت کرنا۔ اَعْنَدَ فلانًا: کی مخالفت کرنا۔ — العرقُ: رگ سے لگاتار خون بہنا۔ تَعَانَدَ القومُ: ایک دوسرے کی مخالفت کرنا۔ استعند الفرسُ: گھوڑے کا سرکشی کرنا، منہ زور ہونا۔ — هُ القَیءُ: کو قے کا گھیر لینا۔ العَانِد (فا) جمع عُنُد و عَوَانِد: میانہ روی سے ہٹنے والا۔ دمٌ عَانِدٌ: ایک سمت بہنے والا خون۔ کہا جاتا ہے: طَعَنَه طعنا عاندا: کو دائیں بائیں نیزہ مارنا۔ العُنْد و العِنْد و العَنْد: جانب، کنارہ۔ العَنَد: جانب کنارہ، کہا جاتا ہے: هو یمشی وسطًا لا عَنَدًا: وہ بیچ میں چلتا ہے کنارے پر نہیں چلتا۔ العِنَادیّ: معروضی وجود و افکار کے منکر فرقہ کا پیرو، مثالیت پسند۔ العِنَادِیّة او المثالیّة: مثالیت تصوریت، (idealism)۔ حقیقت اشیاء کے منکرین کا مذہب جو کہتے ہیں کہ اشیاء نقش برآب کی طرح باطل اوہام اور تصورات ہیں۔ اور اس بات کے قائل ہیں کہ علم و معرفت کا صدور تصوریت سے ہوتا ہے۔ العَنُود جمع عُنُد: میانہ روی سے ہٹنے والا۔ سحابةٌ عَنُود: موسلا دھار برسنے والا بادل۔ عقبةٌ عَنُودٌ: دشوار گزار گھاٹی۔ رجُلٌ عَنُودٌ: وہ شخص جو تنہا اترے، کسی کے ساتھ نہ اترے۔

۲۔ عَانَدَ مُعَانَدَةً و عِنَادًا الشیَٔ: کے ساتھ ساتھ رہنا۔ — الرجُلَ: کے جیسا کام کرنا۔ اِسْتَعْنَدَ فلانًا: کا قصد کرنا۔

۳۔ عِنْد: اسم مکان جیسے: وقفتُ عند الباب: میں دروازہ کے پاس کھڑا ہوا۔ اسم زمان جیسے: سافرتُ عند مغیب الشمس: میں نے سورج کے غروب کے وقت سفر کیا۔ مِن کے داخل ہونے سے مجرور ہو جاتا ہے، جیسے: اتیتُ من عنده: میں اس کے پاس سے آیا۔ عام لوگ کہتے ہیں: ذهبت إلی عنده جو از روئے قواعد غلط ہے۔ صحیح ذهبت الیه ہے۔ جس کا معنی یہ ہے: میں اس کے پاس گیا۔ العِنْد: دل۔ معقول۔

۴۔ عَنْدَرَ المطرُ: سخت بارش ہونا۔

۵۔ عَنْدَلَ عَنْدَلَةً الهزارُ: بلبل کا چہچہانا۔ العَنْدَلِیب جمع عَنَادِل (ح) بلبل۔

۶۔ العَنْدَم: برازیلی لکڑی جو رنگنے میں استعمال کی جاتی ہے، سرخ رنگ رنگنے کا پودا یا معدنی چیز۔ اس لکڑی کو دم الاخوین یا بقّم کہتے ہیں۔

○ عَنَدَ ـِ عُنُودًا و عَنَدَ ـُ عَنَدًا عن: سے جدا ہونا، سے تجاوز کرنا، انحراف کرنا، ہٹنا، منحرف ہونا، — سرکشی سے مقابلہ کرنا، ضدی ہونا، سرکش ہونا، منہ زور ہونا۔ عَانَدَه: کا مقابلہ کرنا، کی مخالفت کرنا، (مستقل مزاجی سے)۔ استعند ه: کے ساتھ لگا رہنا۔ عِنْدَ: کے پاس، کے نزدیک، کے ساتھ، کے وقت، کے قبضہ میں، پر، کی رائے میں۔ من عند: سے، کے گھر سے، سے دور۔ من عنده: جہاں تک اس کا تعلق ہے۔ اضاف شیئا من عنده: اس نے اپنا کچھ بھی شامل کیا۔ عِنْدَهَا: اس لحہ۔ ان الفاظ کے ساتھ۔ علی عندی: میرے مقابل، میرے خلاف۔ عند البیت: گھر کے نزدیک، گھر میں۔ عند التحقیق: اصلی بات تو یہ ہے کہ درحقیقت، لگی لپٹی رکھے بغیر۔

(to be exact, strictly speaking)۔ عندطلوع الشمس: سورج نکلنے پر۔ عندی دینار واحد: میرے پاس صرف ایک دینار ہے۔ عند ذلك: تب، پھر، اس کے بعد، اس لئے، چنانچہ، فوراً ہی، اس لمحے۔ ملوك الارض عند الله تراب: اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں زمینی بادشاہ محض مٹی ہیں۔ عِندی: میری رائے میں، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں۔ ما عندك: تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ لم یکن عندر أیهم: وہ وہ نہ تھا جس کی انہیں توقع تھی۔ کان عند حُسن ظنه: کی بلند توقعات پر پورا اترنا۔ کان عند حسن الظن به: کے متعلق اچھی رائے رکھنا۔ کان عند نُصحِهِ: کے مشورہ پر چلنا۔ عندما: جیسے ہی، جب بھی، جب من عِندیاتِهِ: اس کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا، اس کی اپنی دماغی اختراع، خود آپ سے، آپ ہی آپ، ازخود، خود بخود، آپ ہی، آپ سے آپ۔ عِندئِذٍ: تب اس وقت، اس لمحے، کے ساتھ، اس ذریعہ سے۔ عنید جمع عُنُد (ل: کا سختی سے مقابلہ کرنے والا)، ضدی، ہٹ دھرم، ہٹ کا پکا، خودسر، سرکش، خودرائے، اپنی رائے سے نہ ہٹنے والا، اپنی بات پوری کئے بغیر نہ چھوڑنے والا، ثابت قدم، مستقل مزاج، ہٹیلا۔ عِناد: مقابلہ، مقاومت، مخالفت، ضد، ہٹ دھرمی، خودسری، سرکشی، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، خودداری۔ معاندہ: مقابلہ، مقاومت، مخالفت، ضد، ہٹ دھرمی، خودسری، سرکشی، خودداری، اپنی رائے پر اڑا رہنا۔ مُعانِد (ل: کا سختی سے مقابلہ کرنے والا) ضدی، ہٹ دھرم، خودرائے، اپنی رائے پر اڑنے والا۔ عندلة: بلبل کی چہچہاہٹ، گیت۔ عَندَمی: گہرا سرخ۔

عنز: ۱۔ عَنَزَ ـُ عَنزًا ہٗ: کو نیزہ مارنا۔ العَنَزَة جمع عَنَز و عَنَزات: ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو۔ عَنَزَة الفاس: کلہاڑی کی دھار۔ العَنُوز و العَنز: مصیبت میں مبتلا۔

۲۔ عَنَزَ ـِ عَنزًا و اِعتَنَزَ و اِستَعنَزَ عنه: سے علیحدہ ہونا، ایک گوشے میں اترنا۔ اعنز الشیءَ: کو جھکانا۔ تَعَنَّزَ: لوگوں سے علیحدہ ہو جانا۔

۳۔ العَنز جمع عِناز و اَعنُز و عُنُوز (ح): بکری۔ (ح): مادہ چکور، مادہ شکرا، ہرنی، مادہ گدھ۔ العَنَزَة (ح): بکری۔

۴۔ العَنزُوقة عند العامة: ہنڈولا۔ اس کے اسم سے فعل بنا کر کہتے ہیں: عَنزَقه: اس نے اسے جھلایا۔ تعنزق: وہ جھولا۔

عنس: ۱۔ عَنَسَ ـِ عَنسًا العودَ: لکڑی کو جھکانا، موڑنا۔ اَعنَسَ الشیءَ: کو متغیر کرنا، کہا جاتا ہے۔ فلانٌ لم تعنُسْ او لم تعنِس السنُّ وجهَه: کبرسنی نے فلاں کے چہرہ کو متغیر نہیں کیا۔ الشیبُ وجهَهُ: بڑھاپے کا چہرے کو بدل دینا۔

۲۔ عَنَسَ ـُ عُنوسًا و عِناسًا الجاریةُ: لڑکی کا بالغ ہونے کے بعد دیر تک اپنے گھر والوں کے پاس بے شادی کئے رہنا۔ صفت عانِس جمع عوانِس و عُنَّس و عُنُس و عُنُوس۔ الرجلُ: مرد کا بڑی عمر تک بغیر شادی کے رہنا۔ صفت عانِس۔ عَنِسَ ـَ عُنوسًا و عِناسًا الجاریة: لڑکی کا بالغ ہونے کے بعد دیر تک بغیر شادی کے رہنا۔ عَنَّسَت الجاریة: لڑکی کا بالغ ہونے کے بعد بغیر شادی کے رہنا۔ ۔ الجاریةَ اَهلُها: لڑکی کے گھر والوں کا اسے شادی سے روکے رکھنا۔ صفت: مُعَنَّسَة جمع مُعَنَّسات و مَعانِس۔ عُنِّسَ و اُعنِسَت الجاریةُ بمعنی عَنَسَت۔

۳۔ عَنَسَ ـَ عَنسًا: ہر وقت آئینہ دیکھتے رہنا۔ العِناس جمع عُنُس: آئینہ۔

۴۔ العَنس جمع عِناس و عُنُوس (ح): عقاب، طاقتور اونٹنی۔

○ عانس: جمع عوانِس: ناکتخدا عورت، بوڑھی دوشیزہ۔

عنش: عَنَشَ ـُ عَنشًا العودَ: لکڑی کو جھکانا، موڑنا۔ الرجلَ: کو پریشان کرنا، غضبناک کرنا۔ عانَشَ مُعانَشَةً و عِناشًا: لڑائی میں ایک دوسرے سے لپٹنا، مفاخرت کرنا۔ تعَنَّشَ المالَ: ہر طریقے سے مال جمع کرنا۔ تعانشا: ایک دوسرے سے گلے ملنا۔ اِعتَنَشَہٗ: لڑائی میں ایک دوسرے سے لپٹ جانا، پر ظلم کرنا۔ الاَعنَش: جس کی چھ انگلیاں ہوں، چھنگلیا۔

عنص: ۱۔ العُنصُر و العُنصَر جمع عناصِر: اصل، جڑ، کہا جاتا ہے۔ انه لكريم العُنصُر: وہ شریف الاصل ہے۔ حسب، ہمت، ضرورت، مصیبت، ہیولے، مادہ، جسم بسیط۔ العُنصُرُ الکهربائی (ف): برقی عنصر، جو برقی رو پیدا کرنے میں کیمیائی عمل سے کام لیتا ہے اور مثال کے طور پر ٹارچ میں استعمال ہوتا ہے۔ قدماء کے نزدیک عنصر چار تھے: آگ، پانی، ہوا، مٹی انہیں استقسات، مواد اور ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ عُنصُری: عنصر کا، عنصر سے متعلق، جسم عنصری: بسیط۔ العُنصُرِیَّة: نسلی عصبیت، نسلی برتری کا احساس (racism)۔ عید العُنصرة: شاگردوں میں روح القدس کے حلول کی یادگار کی عید جو عید الفصح کے پچاس دن بعد منائی جاتی ہے۔ (عند الیهود) طور سینا پر نزول احکام شریعت کی یاد میں منائی جانے والی عید۔ یہ لفظ عبرانی ہے۔ اور اس کا معنی اجتماع یا محفل ہے۔

۲۔ العُنصُل (ن): جنگلی پیاز۔ جس کو بصل الفار بھی کہتے ہیں۔

۳۔ العَنصُوة و العِنصُوة و العُنصُوة و العِنصِیَة و العِنصاة جمع عَناصٍ: تھوڑے سے متفرق بال یا گھاس وغیرہ۔

○ عُنصُر جمع عَناصِر: اصل، نسل، سامان، قسم، نسلی عنصر، عنصر (element)، جزو ترکیب، مشتمل حصہ (Component)، جزو ترکیبی (ingredient)۔ عُنصری: نسلی، عنصری و عناصر (عناصر کا یا عناصر کے متعلق)۔ التباغض العُنصری یا الاحقاد العُنصریة: نسلی تنفر یا نفرت۔ المسألة العنصریة: مسئلہ قومیت، نسلی اقلیات کا مسئلہ۔ عُنصُرِیة: نسل، قومیت، نسلی تصوری۔ العَنصَرة و عید العنصرة: سفید اتوار و الاہفتہ، ایسٹر کے بعد کا ساتواں اتوار سفید اتوار۔ عُنصُل: سمندری پیاز۔ عَنعَنات: روایات۔ مُعَنعَن: ارسال کردہ۔

عنظ: ۱۔ العُنظُب و العُنظُبان و العُنظُوب م عُنظُوبة (ح): ایک قسم کی ٹڈی۔

۲۔ عَنظی به: سے ٹھٹھا کرنا، کو بری بات سنانا، گالی دینا۔ العُنظُوان: فحش بکنے والا۔ (ن): ایک قسم کی کھٹی گھاس۔ العُنظُوانة جمع عُنظُوانات (عُنظُوان کا واحد)۔ (ح) مادہ ٹڈی۔ العِنظِیان: فحش بکنے والا۔

عنف: ۱۔ عَنُفَ ـُ عُنفًا و عَنافةً بالرجل و علیه: پر سختی کرنا، صفت عنیف جمع عُنُف۔ عَنَّفَهٗ: سے سخت سلوک کرنا یا برتاؤ کرنا۔ کو سختی سے جھڑکنا، پر عتاب کرنا۔ اَعنَفَ الامرَ: کو سختی سے لینا۔ ۔ ہٗ: سے سخت برتاؤ کرنا، سے سختی سے پیش آنا۔ اِعتَنَفَ الامرَ: کو سختی سے لینا۔ العُنف و العَنف و العِنف: سختی، سنگدلی۔ الاَعنَف: سختی سے پیش آنے والا۔ عُنفُوانُ الشباب و عُنفُوُّهٗ: ابتدائے جوانی، آغاز جوانی۔ عنفوان الخمر: شراب کی حدت۔ الجنسُ العَنیف: مردوں سے کنایہ۔ اس کے مقابل الجنس اللطیف ہے۔ جو عورتوں سے کنایہ ہے۔ المَعنَفة: درشتی کا سبب۔

۲۔ اِعتَنَفَ الشیءَ: کو شروع کرنا۔ العُنُفة و العُنُفة: ابتداء، شروع۔ اعتنف المجلسَ: مجلس سے چلا جانا۔

۴۔ تَعَنْفَصَ: ڈینگیں مارنا، شیخی بگھارنا۔ (عام لوگ عَنْفَص کہتے ہیں)۔ صفت مُعَنْفِص۔

۵۔ العَنْفَقَة جمع عَنَافِق: داڑھی بچہ (تھوڑی اور نچلے ہونٹ کے درمیان کے تھوڑے سے بال)۔

○ عَنُفَ ہ/ علی/ ب: سے سختی، درشتی کا یا سخت سلوک یا برتاؤ کرنا۔ سے ناشائستہ سلوک یا برتاؤ کرنا۔ ـــــ ہ/ ب: کو سرکاری طور پر سرزنش کرنا، کو ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھاڑ جھپاڑ کرنا، کو سخت ملامت کرنا، کی سخت مذمت کرنا، کو جھڑکنا، برا بھلا کہنا، سخت سست کہنا۔ اِعْتَنَفَ ہ: سے سختی سے پیش آنا، سے سخت سلوک کرنا، سے سخت برتاؤ کرنا، سے ناشائستہ سلوک یا برتاؤ کرنا۔ عُنف و عُنُف: سخت گیری، شدت، سختی، بدسلوکی، برا برتاؤ، اکھڑپن، کرختی، تشدد، جوش، تندہی، تلخی، طاقت کا استعمال۔ عنیف: سخت گیر، شدید، سخت، ناشائستہ، دنگے والا، کرخت، تشدد آمیز، تلخ، مار پیٹ پر اتر آنے والا، سخت محنتی، جفاکش، محنت طلب، جانفشانی کا، مشکل، سخت گیر۔ عُنْفُوَان: قوت، طاقت، کس بل، دم خم، جان، بہترین حصہ۔ فی عنفوان شبابہ: عالم شباب میں اَعْنَف: زیادہ سخت، زیادہ شدید، سخت تر، تندتر۔ تعنیف: سخت ملامت، زجر و توبیخ، سرکاری سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ، جھاڑ جھپاڑ۔

عنق: ا۔ عَنِقَ ـَ عَنَقًا: لمبی گردن والا ہونا۔ صفت اَعْنَق۔ عَنَّقَهُ: کو گردن سے پکڑنا۔ ـــــ طَلْعُ النخل: کھجور کا شگوفہ لمبا ہونا۔ ـــــ علیه: چلنا اور کو گردن اٹھا کر دیکھنا۔ عَانَقَ مُعَانَقَةً ہ: کو گلے لگانا۔ اَعْنَقَ الکلبَ: کتے کو پٹہ ڈالنا۔ ـــــ الزرعُ: کھیتی کا اونچا ہونا، خوشہ نکالنا۔ تَعَنَّقَ الیربوعُ: جنگلی چوہے کا بل میں گھسنا۔ تَعَانَقَ الرجلان: ایک دوسرے سے گلے ملنا۔ اِعْتَنَقَ الشیَ: کو سختی سے پکڑنا، کے ساتھ رہنا۔ الرجلان: لڑائی وغیرہ میں ایک دوسرے کے گلے کو پکڑنا۔ العُنُق جمع اَعْنَاق (ع ا) گردن، گلا۔ (مذکر اور کبھی مونث)۔ العُنْق جمع اَعْنَاق: گلا (مذکر اور کبھی مونث) کہا جاتا ہے۔ کان ذلك علی عُنُقِ الدھر: یہ زمانہ قدیم سے تھا۔ لَهُ عَنَقٌ فی الخیر: اس کے لئے پہلے ہی نیکی میں سبقت ہے۔ هُمْ عُنُقٌ الیك: وہ تیری طرف مائل ہو کر ان رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں۔ ـــــ من النبات: ڈنٹھل، ڈنڈی۔ عُنُقُ کل شیئ: ہر چیز کا پہلا حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ مات فلانٌ فی عُنُقِ الصیف: فلاں موسم گرما کے ابتدائی حصہ میں مرگیا۔ قد اخذ بعُنُقِ الستین: وہ ساٹھ سال کے لگ بھگ پہنچ گیا۔ العُنُق: رئیس لوگ۔ العانقاء: جنگلی چوہے کا بل۔ العِنَاقِیَّة (ن): ایک پودا۔ الأعنق: لمبی گردن والا۔ العَنْقَاء جمع عُنْق: لمبی گردن والی۔ ٹیلہ کی چوٹی۔ هضبةٌ عَنْقَاء: بلند اور لمبا ٹیلہ یا پہاڑی۔ العُنَیق: چھوٹی گردن، چھوٹی ٹہنی، شاخ جس پر پھول ہو۔ العَنِیق: گردن، بغل گیر ہونے والا۔ المِعْنَاق جمع مَعَانِیق: عمدہ گردن والا گھوڑا۔ المُعْنِق جمع مَعَانِیق: سخت اور اونچی زمین۔ رجلٌ مُعْنِق: لمبی گردن والا آدمی۔ المِعْنَقَة: پٹہ، ہار۔

۲۔ عَانَقَ مُعَانَقَةً وعِنَاقًا ت الابلُ: اونٹوں کا تیز چلنا۔ اَعْنَقَ ت الدابّةُ: جانور کا چوڑے قدم ڈال کر تیز چلنا۔ ـــــ النجمُ: ستارہ کا غروب ہونا۔ ـــــ ت البلادُ: ملک کا دور ہونا۔ العَنَق: جانور کی تیز چال۔ المُعْنِق جمع مَعَانِیق: تیز دوڑنے والا۔ المِعْنَاق جمع مَعَانِیق: عمدہ گردن والا گھوڑا۔

۳۔ اَعْنَقَ ت الریحُ: ہوا کا مٹی اڑانا۔

۴۔ العُنُق: جماعت۔ العَنَاق: سختی و محرومی، مصیبت۔ ـــــ جمع اَعْنُق وعُنُوق (ح): بکری کی میمنی جو سال بھر کی نہ ہوئی ہو۔ عَنَاق الارض: (ح): (بلی کی قسم کا ایک شکاری جانور)، سیاہ گوش، بن بلاؤ۔ العَنَاقَة: سختی و محرومی۔ العَنْقَاء: مصیبت۔ عَنْقَاءُ مُغْرِب والعنقاء المُغْرِبُ والمُغْرِبَة: ایک فرضی پرندہ۔ حلّقت به فی الجو عنقاءُ مُغْرِبٍ: وہ ہلاک ہوگیا، کالعدم ہوگیا۔

۵۔ عَنْقَشَ بالشیئ: سے چمٹنا۔ تَعَنْقَشَ به: کے گرد لپٹنا، سخت ہونا۔

○ عَنَّقَ ہ: کو گردن سے پکڑنا، کو گریبان یا پٹہ سے پکڑنا، کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا، کو سختی سے پکڑنا۔ عَانَقَ ہ: سے گلے ملنا، کو گلے لگانا، کو آغوش لینا، سے ہم آغوش ہونا، کو پیار سے گلے لگانا، کا ہم صحبت ہونا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنے آپ کو سے منسلک کرنا۔ تَعَانَقَ: ایک دوسرے سے گلے ملنا۔ اِعْتَنَقَ ہ: کو گلے لگانا سے ہم آغوش ہونا۔ ـــــ ہ: (عقیدہ، مذہب وغیرہ) کو اپنانا، قبول کرنا، اختیار کرنا، (یا مذہب) قبول کرنا، (نئے مذہب) میں آنا۔ ـــــ ہ: کی طرف توجہ کرنا۔ اعتنق: ایک دوسرے سے گلے ملنا۔ عِناق: معانقہ، گلے ملنا۔ معانقه: گلے ملنا۔ عُنْقُود جمع عَنَاقِید: گچھا، انگور کا گچھا۔

عنك: ا۔ عَنَكَ ـُ عُنْكًا و عُنُوكًا الرملُ: ریت کا ڈھیر ہو کر بلند ہونا اور اس میں راستہ نہ ہونا صفت عَنِیك جمع عُنُك۔ ـــــ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ ـــــ الرجلُ: زمین میں سفر کرنا۔ ـــــ عَنَّكَهُ: کو ملامت کرنا اور مشقت میں ڈالنا۔ اَعْنَكَ الرجلُ: ریت کے تودہ میں جا پڑنا۔ ـــــ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ تَعَنَّكَ الرجلُ: ریت کا ڈھیر ہو کر بلند ہونا۔ اِعْتَنَكَ البعیرُ: اونٹ کا ریت میں گر کر پھنس جانا اور نکل نہ سکنا۔

۲۔ عَنَكَ ـُ عُنْكًا و عُنُوكًا الفرسَ: گھوڑے کا حملہ کرنا۔

۳۔ العَنْکَبُوت جمع عَنَاکِب و عَنْکَبُوتَات (ح): مکڑی۔ العَنْکَب جمع عَنَاکِب و عَنَاکِیب (ح): نرمکڑی۔ العَنْکَبَة والعَنْکَبَاة والعَکنباة جمع عَنَاکِب وعَنَاکِیب (ح): مادہ مکڑی۔ العَنْکَبُوتِیَات (ح): مکڑیوں اور بچھوؤں وغیرہ پر مشتمل گروہ۔

○ بیت (نسیج) العنکبوت: مکڑی کا جالا۔

عنم: عَنَّمَ البنانَ: پوروں کو عنم سے رنگنا، خضاب لگانا۔ اَعْنَمَ تِ الماشیةُ: جانوروں کا عنم گھاس چرنا۔ العَنَم (واحد عَنَمَة) (ن): ایک درخت جس کا پھل سرخ ہوتا ہے جس کے ساتھ رنگے ہوئے پوروں کو تشبیہ دیتے ہیں۔ انگور کی بیل کے دھاگے جو ٹہنی کی لکڑیوں سے لپٹ جاتے ہیں۔ العَنَمِیّ: سرخی جھلکتا خوبصورت چہرہ والا۔ العَنَمَة: انسان کے ہونٹ کی چھن۔

عنا: ا۔ عَنَا ـُ عَنَاءً وعُنُوًّا له: کے آگے جھکنا، کا فرماں بردار ہونا، صفت عَانٍ وعَنِیّ م عَانِیَة وعَنِیَّة۔ عَنْوَةً: چیز کو زبردستی لے لینا، صلح سے لینا۔ ـــــ وعَنِیَ ـَ عَنًا فی القوم: کا قیدی ہو جانا۔ صفت عانٍ جمع عُنَاة م عَانِیَة وعَانِیَات وعَوَانٍ عَنِّی۔ تَعْنِیَةً الرجلَ: کو قید کرنا۔ اَعْنَی اِعْنَاءً الرجلَ: کو ذلیل اور فرمانبردار کرنا۔

۲۔ عَنَا ـُ عَنَاءً وعُنُوًّا ہ الامرُ: کو غم میں ڈالنا۔ ـــــ الامرُ علیه: پر دشوار ہونا۔ ـــــ ت الامور بفلان: پر نازل ہونا۔

۳۔ عَنَا ـُ عَنَاءً وعُنُوًّا الشیَ: کو ظاہر کرنا۔ ـــــ ت الارضُ بالنبات: زمین کا سبزی اگانا، کہا جاتا ہے۔ لم تَعْنُ بلادُنا بشیئٍ: ہمارے ملک میں کچھ نہیں اگا۔ اعنی اِعْنَاءً ت الارضُ النباتَ: زمین کا سبزہ اگانا۔

۴۔ عَنَا ـُ عُنُوًّا الکتابَ: کتاب (خط وغیرہ) کا عنوان لکھنا، خط پر پتہ لکھنا۔

۵۔ العَانِی: بہتا ہوا پانی یا خون۔ العِنْو و العَنَا جمع اَعْنَاء: کنارہ، پہلو، گوشہ، کہا جاتا ہے: جاء نا اعناءٌ من الناس: ہمارے پاس مختلف قبائل کے لوگ آئے۔

۶۔ عَنْوَنَ عَنْوَنَةً الکتابَ: کتاب کا عنوان لکھنا، دیباچہ

لکھنا۔ عُنْوَانُ الکتاب و عِنوانُهُ و عُنْیانُه و عِنْیانُهُ: کتاب کا دیباچہ۔ عنوان کل شئ: جس کے ظاہر سے باطن کا حال معلوم ہو۔ کہتے ہیں: الظّاهِرُ عنوانُ الباطن: ظاہر باطن کا آئینہ ہوتا ہے۔ عنوانُ الرسالة فی اصطلاح الکتّاب: خط کی پشت یا لفافہ پر اس شخص کا نام و پتہ جسے وہ لکھا گیا ہو۔

ـُ عنـاءً عُنُوًّا ل: کے سامنے عاجز ہونا، کا فرمانبردار ہونا، تابع فرمان ہونا، کا حکم ماننا۔ ـُ عَنْوَةً ہ: کو زبردستی لے لینا، چھین لینا۔ ـ ہ: کے ذہن پر ہونا، کو پریشان کرنا، بے چین کرنا، تشویش میں ڈالنا، کو سوچ میں غرق کرنا، کے لئے اہم ہونا پر اثر انداز ہونا۔ عُنْوة: طاقت، زبردستی، تشدد۔ عَنْوَةً: زبردستی تشدد سے۔ عـان: فرمانبردار تابع مطیع، قیدی، مصیبت میں مبتلا۔ عَنْوَنَ ہ: پر پتہ لکھنا، پر عنوان لگانا۔ عُنْوانًا ل/علی: کی نشانی کے طور پر۔

عنی: ۱- عَنَی ـِ عَنَیَاتُ الارضُ بالنبات: زمین کا سبزہ اگانا۔

۲- عَنَی ـِ عَنْیًا و عِنَایَةً بمقاله کذا: سے (کوئی) مراد لینا۔ تَعَنَّی تَعَنِّیًا فی الامر: میں میانہ روی اختیار کرنا۔ المَعْنَی جمع مَعَانٍ: معنی، مراد مقصود۔ معنی الکلمة: کلمہ کا مدلول، معنی، مطلب، مفہوم، معنی الکلام: کلام کا مضمون۔ المَعَانی: انسان کی محمودہ صفات۔ کہا جاتا ہے: فلان حسنُ المعانی: فلاں شخص صفات حسنہ کا مالک ہے۔ المُعَنَّی عند الزجالین: گویوں کے منظوم کلام کی ایک قسم جس میں قافیہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور زبان کی درستی اور شعر کے وزن کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ المَعْنَوِیّ: معنی سے منسوب۔ مَعْنِیُّ الکلام و مَعْنَاتُهُ و مَعْنِیَّتُهُ: کلام کا معنی۔

۳- عَنَی ـِ عَنْیًا الامرُ لفلان: کو پیش آنا۔ ـ عِنَایَةً و عِنَایَةً و عُنِیًّا الامرُ فلانًا: کو مشغول کرنا، فکرمند کرنا۔ ـ عِنَایَةُ اللّٰهِ به: اللہ کا کسی کی حفاظت کرنا۔ عُنِیَ عِنَایَةً و عُنِیًّا بالامر: میں مشغول ہونا، فکرمند ہونا، کی وجہ سے مشقت برداشت کرنا، صفت عـان و عَنٍ۔ عَنِیَ ـَ عَنَاءً: تھکنا۔ ـ عَنِیَ بالامر: کے بارے میں پریشان ہونا، میں مشغول ہونا، کی نگہداشت کرنا صفت: عـانٍ و عَنٍ۔ عَنَّی تَعْنِیَةً و اَعْنَی و اِعْنَاءً الرجلَ: کو تکلیف پہنچانا، کو دشوار بات کی تکلیف دینا۔ عَانَی مُعَانَاةً ت الهمومُ فلانًا: کو تفکرات کا پیش آنا۔ ـ الشئَ: کی تکلیف برداشت کرنا۔ ـ الرجلُ مالَهُ: مال کی حفاظت کرنا۔

ـ ہ: کی مدارات کرنا۔ تَعَنَّی تَعَنِّیًا: تھکنا، نڈھال ہونا۔ ـ الامرَ: کو برداشت کرنا۔ ـ ت الحُمّٰی فلانًا: کو بار بار بخار آنا۔ اِعْتَنَی اِعْتِنَاءً الامرُ: واقع ہونا۔ ـ بالامر: کا اہتمام کرنا، کی پرواہ کرنا۔ العَنِی م عَنِیَّة: اہتمام کرنے والا۔ العَنَایَة و العِنَایَة: اہتمام۔ العُنْیَة و العَنَاءُ و العَنَا: تھکن، کہا جاتا ہے: هو به اَعْنَی: وہ اس کا زیادہ اہتمام کرنے والا ہے۔ المُعَنَّی: جسے دشوار کام کرنے کیلئے کہا گیا ہو۔

۴- عَنَی ـِ عَنْیًا فیه الأکلُ فیه: میں کھانا مفید ہونا، خوشگوار اثر ڈالنا۔ عَنِیَ ـَ عَنِیَ الاکل فیه: بمعنی بالا۔

۵- عَنَّی تَعْنِیَةً و اَعْنَی اِعْنَاءً الکتابَ: کتاب کا دیباچہ لکھنا، کہا جاتا ہے: ما اَعْنَی شیئًا: اس نے کسی شے کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ العُنْیَان: عنوان۔

عَنَی ـِ عِنَایَةً ہ: کے ذہن پر ہونا، کو بے چین کرنا، پریشان کرنا، کو سوچ میں غرق کرنا، کے لئے اہم ہونا، پر اثر انداز ہونا، سے دلچسپی لینا۔

عَنَی ـِ عَنْیًا ہ: کو ذہن میں رکھنا۔ ـ ہ ب: سے کا مطلب ہونا، کے معنی ہونا۔ یَعْنِی یا اَعْنِی: یعنی۔

عُنِیَ عِنَایَةً ب: کے بارے میں پریشان ہونا، متفکر ہونا، میں دلچسپی لینا، کی نگہداشت کرنا، دیکھ بھال کرنا، کا خیال رکھنا۔ عَنَّی ہ: کو سخت اذیت دینا، کو سخت کوفت پہنچانا، کو تنگ کرنا، دق کرنا، کو روحانی اذیت پہنچانا، ذہنی کوفت پہنچانا، کو مغموم کرنا، کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا، کو پریشان کرنا، زچ کرنا۔ عَانَی ہ: میں مشغول ہونا، میں سخت کوشش کرنا، پر کوشش صرف کرنا۔ ـ اَنْ: دیکھنا کہیں، خیال رکھنا کہ مبادا، کوشش کرنا کہ، ذہن میں رکھنا کہ، یقین کرنا کہ۔ ـ ہ: کو برداشت کرنا، کی مشکلات میں سے گزرنا۔ کی کڑیاں جھیلنا، کو مول لینا، اٹھانا، بھگتنا، کاٹنا، جھیلنا، بھوگنا، سہنا، برداشت کرنا، میں مبتلا ہونا۔ تَعَنَّی: محنت کرنا، مشقت کرنا، جان مارنا، جدوجہد کرنا، چاکری کرنا۔ اِعْتَنَی ب: کے بارے میں متردد ہونا، کا خواہاں ہونا، پر دل سے آمادہ ہونا، کا بڑا خیال رکھنا، کیلئے جان کھپانا، بڑی محنت کرنا، کے متعلق پریشان ہونا، کے لئے تشویش یا پریشانی محسوس کرنا، کی نگہداشت کرنا، کا خیال رکھنا، کے لئے کوشاں ہونا، کا سوچنا، کے لئے تیار رہنا، کا اہتمام کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، کی نگرانی کرنا، کا خیال رکھنا، کیلئے توجہ مخصوص کرنا، پر توجہ کرنا، کی تیمارداری کرنا۔ عِنَایَة: پریشانی، تشویش، قدرت یا رحمت الٰہی، فضل خدا، احتیاط۔ ـ ب: کا اہتمام، کے لئے تیاری، میں محنت، کی طرف توجہ، میں دلچسپی۔ العنایة الالهیه: اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل۔ عِنَایة طبیه: طبی دیکھ بھال۔ اسم معنی: ذہنی اسم Abstract noun۔ علم المعانی: بلاغت، معانی، بیان۔ (Rhetoric) ذو معنی: معنی خیز۔ بکل معنی الکلمة: لفظ کے مکمل مفہوم میں۔ لا معنی له: بے معنی، بیہودہ، بکواس۔ وما فی معناه: اور ایسی ہی باتیں، وغیرہ وغیرہ۔ نظرات کلها معان: پر معنی نظریں۔ مَعْنَوِی: کسی لفظ یا عبارت کے مفہوم یا اہمیت کے متعلق (لفظی کے مقابل)۔ معنی سے متعلق، مثالی، مجرد، ذہنی، روحانی (بمقابل مادی)۔ شخص معنوی: مصنوعی، روحانی، یا فقہی شخص۔ معنویات: مثالی غیر مادی اشیاء، (فوج کا) حوصلہ، جوش ولولہ۔ مُعَانَاة: کوشش، کوششیں۔ تَعَنٍّ: محنت، مشقت، چاکری۔ اِعتناء ب: کے لئے اہتمام، کے لئے تشویش، پر توجہ، کو اصلی حالت میں یا چالو رکھنا، کی پرورش، کی ترقی کی نگہداشت، کا خیال، کی دیکھ بھال، پر توجہ، میں دلچسپی۔ عـان: بخت بری حالت میں، سخت غم زدہ، مصیبت زدہ، مشکل میں پھنسا ہوا۔ مُعْتَنٍ ب: میں دلچسپی لینے والا۔

عهد: ۱- عَهِدَ ـَ عَهْدًا الامرَ: کو پہچاننا۔ ـ الشئَ: کی حفاظت کرنا، کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔ ـ اللّٰهَ: اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا۔ ـ فلانٌ وعدَهُ: وعدہ کی حفاظت کرنا اور پورا کرنا۔ ـ الی فلان: کو وصیت کرنا سے شرط لگانا۔ ـ الیه فی کذا: کے بارے میں کو وصیت کرنا اور ذمہ دار بنانا۔ عَاهَدَهُ: سے معاہدہ کرنا، کو حلیف بنانا۔ اَعْهَدَ فلانًا من کذا: کو کا امین بنانا، کو سے بری کرنا، کی سے کفالت کرنا۔ اعهدك من هذا الامر: میں اس معاملہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں۔ تَعَهَّدَ و اِعْتَهَدَ الشئَ: کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ کے بارے میں تجدید عہد کرنا۔ ـ املاکهُ: اپنے املاک کی حفاظت و اصلاح کرنا۔ تَعَاهَدَ القومُ: ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا۔ ـ الشئَ: کی حفاظت کرنا۔ ـ املاکهُ: اپنے املاک کی حفاظت اور اصلاح کرنا۔ اِسْتَعْهَدَ فلانٌ من صاحبه: سے عہد لینا۔ ـ فلانًا من نفسه: کو اپنے حوادث نفس کا ذمہ دار ٹھہرانا۔ العهد (مص) جمع عُهُود: وفا، ضمان، امان، ذمہ، دوستی، وصیت، معاہدہ، قسم (کہا جاتا ہے: علیّ عهدُ اللّٰه لأ فعلنّ کذا: قسم بخدا میں ایسا کروں گا) شاہی فرمان، وہ مقام جہاں کسی سے کے

بارے میں عہد کیا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے: عهدی به انه کـریـمٌ: میرے علم میں وہ کریم النفس ہے۔ هـو قـريب العهد بكذا: وہ قریب العلم یا قریب الحال ہے۔ كـان ذلك فـي او علی عهد فلان: یہ فلاں کے زمانہ میں ہوا تھا۔ العهد القديم: بائبل کی وہ کتابیں جو مسیح علیہ السلام سے پہلے لکھی گئیں۔ العهد الجديد: دین کی وہ کتابیں جو حضرت عیسیٰ کے بعد لکھی گئیں۔ ولیُّ العهد: جو بادشاہ کی وفات کے بعد اس کی جگہ لے۔ الـعَهِـد: عہد ے پسند کرنے والا۔ معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا۔ العُهْدَة: ضمانت، کفالت۔ کسی چیز کی اصلاح کی طرف واپسی، کہا جاتا ہے۔ لی فی الامر عُهْدَة: میں معاملہ کی اصلاح کے لئے عنقریب لوٹوں گا۔ لبنانی شیخ کے ملاقہ کو عُہدہ کہتے تھے۔ الـعُهْـدان: ضمانت۔ کفالت۔ العَهِيد: معاہدہ کرنے والا۔ معاہدہ شدہ۔ پرانا قرية عهيد ة: پرانا گاؤں۔ المَعْهَد جمع مَعَاهِد: جگہ جہاں کوئی چیز پائی جائے۔ وہ جگہ جہاں لوگ واپس آتے ہوں۔ المَعْهُود (مفع): معروف ومشہور۔

۲۔ عَهِدَ ـــ عَهْدًا فلانًا بمكان كذا: فلاں سے فلاں جگہ ملاقات کرنا۔ العَهْد: جمع عُهُود (مص): کہا جاتا ہے: عَهْدِی به قريب: میں اس سے چند روز قبل ملا تھا۔ متی عهدُك بفلان: آپ فلاں سے کب ملیں گے۔

۳۔ عُهِدَ المكانُ: کسی جگہ میں موسم ربیع کی پہلی بارش ہونا۔ العَهْد والعَهْدَة وَالعِهْدَة ج عِهَاد والعِهَادَة: موسم ربیع کی پہلی بارش۔

۴۔ العُهْدَة: خط یا عقل میں نقص یا کمزوری کہا جاتا ہے: فی خطه عُهْدَة: اس کا خط ردی ہے۔

○ عَهِدَ عَهْدًا ہ/ہ کو جاننا۔ ـــ ہ (کی) قسم کا علم ہونا۔ ـــ ب: کا امتیازی وصف جاننا۔ ـــ ہ/ہ: سے واقف ہونا، سے آگاہ ہونا۔ ـــ ہ کا قریب سے مشاہدہ کرنا، کو بغور دیکھنا، پر کان دھرنا، کی طرف توجہ دینا، پر توجہ کرنا، کی دیکھ بھال کرنا۔ ـــ إلی ب: کو کچھ سونپنا، تفویض کرنا، کے سپرد کچھ کرنا۔ کے سپرد کوئی کام کرنا، کو کوئی کام دینا یا سونپنا یا تفویض کرنا، کو کسی کام کا اختیار دینا، پر کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری ڈالنا۔ کو کوئی کام کرنے کا ذمہ دار بنانا۔ فیما أعْهَد: میرے علم کے مطابق، جہاں تک میں جانتا ہوں۔ عَهِـد وعدَه: اپنا وعدہ پورا کرنا۔ عَاهَده علی: سے کے بارے میں معاہدہ کرنا، سے کا وعدہ کرنا۔ ـــ ہ ب: سے کا وعدہ کرنا۔ ـــ ہ علی: سے کچھ کرنے کا ذمہ لینا۔ تَعَهَّد ہ: کی وکالت کرنا، تائید کرنا، کی حمایت کرنا، کے حق میں بولنا، کے لئے جدوجہد کرنا، کو بغور دیکھنا، کی طرف توجہ کرنا، کو ذہن میں رکھنا، پر توجہ دینا، کی حفاظت کرنا، کا خیال رکھنا، کو صحیح حالت میں رکھنا، برقرار رکھنا، کو برقرار رکھنے کا قانوناً ذمہ دار ہونا، کیلئے جوابدہ ہونا۔ کا ذمہ لینا۔ ـــ ل ب: سے کا وعدہ کرنا، عہد کرنا۔ (یا علی ان کے صلہ کے ساتھ یہی معنی) ـــ ل ب: سے کا وعدہ کرنا۔ اِسْتَعْهَدَ مِن: سے تحریری عہد، قول، عہد وپیمان یا وعدہ ذمہ داری لینا، سے معاہدہ پر دستخط کرانا۔ عَهْد علم۔ واقفیت، شناسائی، عہد، معاہدہ (ب سے، کے ساتھ) ـــ: (کسی شخص کی) مشہور اور جانی پہچانی طبیعت، افتادِ طبع، مزاج۔ وعدہ نبھانا، پورا کرنا، بغور مشاہدہ، (سے) سخت وابستگی۔ (ب الی) کو کی تفویض، جمع عهود: ذمہ داری، وعدہ ذمہ داری، فرض، احساس ذمہ داری، وعدہ، عہد و پیمان، قول و قرار، قسم، وعدہ، معاہدہ۔ اقرار نامہ، وقت، دور، زمانہ۔ بُـعـد العهد ماضی بعید سے تعلق بمعنی حديث العهد۔ حال کا، حالیہ، نیا، تازہ نوجوان، حديث عهد ب یا حديث العهد ب: جس نے حال ہی میں کسی چیز کو اختیار یا حاصل کیا ہو۔ جو کسی چیز یا کام کا دیرینہ عادی نہ ہو۔ جسے کسی چیز یا کام کا تجربہ نہ ہو، کسی چیز یا کام میں نیا یا نیا نیا۔ حديث عهدٍ بعُرسٍ: نیا شادی شدہ۔ حديثُ العهد بالولادة: نومولود۔ كـان حديث عهد باوروبا: اسے یورپ کے متعلق حال ہی میں معلوم ہوا تھا۔ قـديـم العـهـد: پرانا، قدیم عہد کا۔ ديمُ العهد ب: میں طویل تجربہ کار، سے دیرینہ واقف، آگاہ شناسا۔ قريبُ عهد ب اور قـديمُ العهد ب: دیکھئے حديث عهد ب اور حديث العهد ب: قريب عهد بالفطام: (بچہ) جس کا دودھ حال ہی میں چھڑایا گیا ہو۔ نیا نیا دودھ چھڑایا ہوا (بچہ)۔ منذ عهدٍ بعيد: بہت عرصہ پہلے۔ لاعهدَ لَه به: کو نہ جاننا، کا تجربہ نہ ہونا، سے ناواقف، ناآشنا ہونا۔ عهدُنا بهذه المسالة: اس مسئلہ سے ہماری مدتوں کی یا پرانی آگاہی ہے۔ اخذ عهدا عليه: سے وعدہ لینا۔ قطع عهدا: معاہدہ طے کرنا، وعدہ کرنا۔ قطع نفسه عهدا علی: فرض ذمے لینا، ذمہ داری لینا، عہد کرنا۔ عهد ب: کرنے کا عہد کرنا، کرنے کی قسم کھانا۔ ولـی العهد: واضح وارث، ولی عہد۔ عـلـی عهده: کے عہد میں، کے زمانہ میں فـي عهد فلان: فلاں کی زندگی میں، کے دوران، کے عہد یا دور میں۔ عهده: کا مانوس مزاج یا انداز، کی معروف طبیعت ظلَّ كعهده: وہ پہلے کی طرح رہا، جیسا ہر شخص اسے جانتا آیا تھا۔ عهدُهم به: کی طبیعت یا انداز جس کے متعلق لوگ جانتے تھے یا ہیں، جس کے لوگ عادی تھے یا ہیں۔ كعهدهم به: جیسے وہ اسے جاننے کے عادی ہیں۔ مازلت انت كعهدی بك: تم ابھی تک وہی ہو۔ مازال علی عهده: تبدیل نہ ہونا۔ ہمیشہ کی طرح ہونا۔ طال به العهدُ: عرصہ دراز تک جاری رہنا، رہنا، جاری رہا، رہا۔ عُهْدَة: ٹھیکہ یا معاہدہ کی ذمہ داری، ذمہ داری، زیر نگرانی کام۔ حفاظت، نگرانی، تحویل، سرپرستی، ضمانت نامہ، کفالت نامہ، فی عُهدته: کی نگرانی، ذمہ داری، حفاظت، تحویل میں، کے سپرد کیا ہوا، کی تحویل میں دیا ہوا، عهدته عليه: وہ اس کا ذمہ دار ہے وہ کیلئے جواب دہ ہے۔ عَهِيد: کسی کا شریک کار (خصوصاً برے کاموں میں)۔ مَعْهَد مع مَعَاهِد: جگہ، آبادی، جسے وہ پہلے سے جانتا تھا یا جہاں وہ دوبارہ جاتا ہے۔ عوامی تنظیم، ادارہ (Public institute or instituion) سائنسی تنظیم، حلقہ درس Seminar۔ معاهدُ الذكريات: یادوں سے پر مقامات۔ معهدٌ اِصْلَاحِیٌّ: اصلاحی قید خانہ (Reformatory)۔ مُعَاهَدَہ جمع مُعَاهدات: میثاق، عہد نامہ، تصفیہ، اتفاق رائے، اتفاق حلف، معاہدہ۔ معاهده السلام (الصلح): معاہدہ امن۔ معاهدة عدم الاعتداء: عدم جارحیت کا معاہدہ۔ تَعَهُّد: وکالت، حمایت، تائید، حفاظت، زیر نگرانی کام، نگرانی، تحویل، سرپرستی، (پر) پابندی، دیکھ بھال، نگہداشت، اچھی حالت میں رکھنا۔ ـــ ب: کا ذمہ لینا۔ جمع تعهدات: وعدہ، عہد قول، عہد وپیمان، ذمہ داری، ملاقات کا وعدہ، فرض، ذمہ داریاں، ٹھیکہ یا معاہدہ کا فرض۔ معهود: مشہور۔ المعهود: مذکورہ۔ مُتَعَهِّد جمع مُتَعَهِّدُون: ٹھیکیدار۔ متعهد فنی: مشہور فنکار (impresario)۔ المُتَعَاهِدان: دونوں فریق (ٹھیکہ دینے اور لینے والا)۔

عهر: عَهَرَ ـــ عَهْرًا و عِهْرًا عُهُورًا و عَهَارَةً وعُهُورَةً و عِهرَ ـ عَهَرًا المرأة: بدکاری کیلئے عورت کے پاس جانا، سے بدکاری کرنا، زنا کرنا، صفت۔ عَاهِر جمع عُهَّار عَاهِر جمع عَوَاهِر۔ عَاهَر عِهَارًا ها: کے پاس زنا (بدکاری) کے لئے جانا۔ العَهِر: بدکار، زانی، زناکار۔ ○ عهر ـ عَهْرًا وعَهِر ـ عَهَرًا اليها: عورت کے

ساتھ بدکاری کرنا، سے زنا کاری کرنا، عَاهَرَهَا: عورت کے ساتھ بدکاری کرنا، زنا کاری کرنا، عِهر: بدکاری، زنا، زنا کاری، عَهْر: بدکار، زانی، زنا کار۔ عَهَارَة: بدکاری، زنا کاری۔ عَاهِر: بدکار، زنا کار جمع عُهّار ۔ جمع عواهر: بدکار عورت، زنا کار عورت۔ طوائف، رنڈی، بیسوا، کسبی۔ عَاهِرة جمع عَاهِرات و عواهر: بدکار عورت، زنا کار عورت، طوائف، رنڈی، بیسوا، کسبی۔

عهل: العاهِل جمع عَوَاهِل: بڑا بادشاہ، بے خاوند عورت۔ ○ عَاهِل جمع عَوَاهِل: مطلق العنان، شہزادہ، حاکم، فرمانروا، بادشاہ، شہنشاہ۔

عهن: ۱۔ عَهَنَ ـُ عَهْنًا بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ـــ من المكان: کسی جگہ سے نکل جانا۔ ـــ الشيءُ: ہمیشہ ہونا، مستحکم ہونا، غیر تغیر پذیر ہونا۔ عَهِنَ ـَ عَهَنًا الشيءُ: حاضر ہونا، موجود ہونا۔ العاهِن: مستحکم، غیر تغیر پذیر، حاضر، موجود۔ مال عَاهِنٌ: موجود اور غیر تغیر پذیر مال، کہا جاتا ہے: هو عِهْنَ مال: وہ مال کا اچھا منتظم ہے۔

۲۔ عَهَنَ ـَ عَهْنًا في العمل: میں کوشش کرنا۔ لفلان مرادَهُ: کی مراد کو جلدی پورا کرنا۔ عَهَنَ ـَ عَهْنًا لَهُ كذا: کو کیلئے جلدی کرنا۔ العَاهِن: جلدی کرنے والا۔

۳۔ عَهَنَ ـَ عَهْنًا إلى فلان: سے عہد لینا۔

۴۔ عَهَنَ ـُ عُهُونًا جرائدُ النخل: کھجور کی شاخوں کا خشک ہونا۔ العَوَاهِن: عَاهِنه کی جمع: درخت خرما کی خشک شاخیں۔ کہا جاتا ہے: رمى الكلامَ عَلَى عواهِنِهِ: اس نے جو کچھ منہ میں آیا کہہ ڈالا اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ غلط ہے یا صحیح۔

۵۔ عَهَنَ ـَ عَهْنًا القضيبُ: شاخ کا لچکنا اور ٹوٹنے کے قریب ہونا۔ العُهْنَة: شاخ کی لچک جو ٹوٹنے کے قریب ہو۔ العاهِن (فا): فقیر، ڈھیلا، کاہل۔

۶۔ العِهْن جمع عُهُون: اون، رنگی ہوئی اون۔ العِهْنَة: (رنگی ہوئی) اون کا ٹکڑا۔ (ن): سرخ پھولوں والا درخت۔

○ عِهْن: (رنگی ہوئی) اون۔ عواهِن (عاهِن کی جمع) (جسم کے) بازو اور ٹانگیں، ہاتھ پاؤں، کھجور کی شاخیں: القى (رمى) الكلام على عواهنه: بلا پابندی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی ہانکنا، بے ربط گفتگو یا تقریر کرنا۔

عاث: عَاثَ ـُ عَوْثًا فلانًا عن كذا: کو سے ہٹانا یہاں تک کہ وہ متحیر ہو جائے۔ عَوَّثَ هُ: کی راہ میں روڑا بننا، کو آہستہ کرنا۔ فلانًا عن كذا: کو سے ہٹانا، پھیرنا۔ تَعَوَّثَ: متحیر ہونا۔ المَعَاث: مذہب، مسلک، گنجائش، کہا جاتا ہے: إنَّ لِي عن هذا الامر لمَعَاثًا: میرے لئے اس میں گنجائش ہے لہٰذا میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔

عاج: ۱۔ عَاجَ ـُ عَوْجًا و مَعَاجًا بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ـــ فلانًا بالمكان: کو کسی جگہ میں اقامت کرانا۔ ـــ السائر: ٹھہر جانا، رک جانا۔ المَعَاج (مص): ٹھہرنے کی جگہ۔

۲۔ عَاجَ ـُ عَوْجًا و مَعَاجًا إلى او على المكان: کسی جگہ کی طرف مائل ہونا اور متوجہ ہونا۔ ـــ فلانٌ عما عزم عليه: پختہ ارادہ سے رجوع کرنا اور اسے ترک کر دینا۔ ـــ البعيرَ: اونٹ کو لگام سے پھیرنا۔ کہا جاتا ہے: ما أعوج بكلامه: میں اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ ـــ اليه: کی طرف مائل ہونا۔ عَوِجَ ـَ عَوَجًا العودُ و نحوهُ: لکڑی وغیرہ کا ٹیڑھا ہونا۔ ـــ الانسانُ: بدخلق ہونا۔ صفت اَعْوَج۔ ـــ عَوَّجَ تَعْوِيجًا العُودَ و نحوَهُ: لکڑی وغیرہ کو ٹیڑھا کرنا۔ صفت مفعولی مُعَوَّج۔ الناقةَ: اونٹنی کو پھیرنا۔ ـ هُ عن الشيء: کو سے باز رکھنا۔ تَعَوَّجَ تَعَوُّجًا و اعْوَجَّ اِعْوِجَاجًا العودُ: لکڑی کا ٹیڑھا ہونا۔ ـــ الشيءُ: غیر متوازن ہونا۔ انْعَاجَ انْعِيَاجًا عليه: کی طرف مڑنا۔ العِوَج: عَوِج کا اسم: ٹیڑھا پن، پیچیدگی، عدم استقامت۔ العَوْجَاء جمع عُوج: اَعْوَج کا مونث۔ کمان، دبلی اونٹنی۔ المَعَاج (مص) ٹھہرنے کی جگہ۔

۳۔ عَوَّجَ تَعْوِيجًا العصا ونحوها: لاٹھی وغیرہ میں ہاتھی دانت جڑنا۔ صفت مفعولی مُعَوَّجة: ہاتھی دانت جڑی ہوئی لاٹھی۔ العاج: ہاتھی دانت۔ العاجة: ہاتھی دانت کا ٹکڑا۔ العَوَّاج: ہاتھی دانت بیچنے والا۔ ہاتھی دانت کا مالک۔

○ عَوِجَ ـَ عَوَجًا: ٹیڑھا ہونا، پیچ دار ہونا، موڑ والا ہونا، مڑا ہوا یا موڑا ہوا ہونا، بٹا ہوا یا بل دیا ہونا۔ پیچیدہ یا پیچ در پیچ ہونا، جھکا ہوا ہونا۔ عَاجَ ـُ عَوجًا: سفر کرتے ہوئے راستہ سے ہٹ جانا۔ ـــ علي: میں، پر ٹھہرنا۔ عَوَّجَ هُ: کو موڑنا، ٹیڑھا کرنا، بٹنا، بل دینا، عِوَج: ٹیڑھا پن، حق سے انحراف، عاج: ہاتھی دانت۔ عاجي: ہاتھی دانت کا۔ اَعْوَج م عَوْجَاء، جمع عُوج: ٹیڑھا، بٹا ہوا، بل دیا ہوا، بٹا ہوا، ترچھا، عجیب سا، عجیب۔ اعوجاج: ٹیڑھا پن، ناہمواری، اونچ نیچ، حق سے انحراف۔ مُعَوَّجَة جمع مُعَوَّجات: قرنیق۔ مُعَوَّج: ٹیڑھا، عجیب سا، عجیب، پیچ دار، پیچیدہ، پیچ در پیچ، مڑا ہوا۔

عود: ۱۔ عَادَ ـُ عَوْدًا هُ: کو ہٹانا۔ و ـــ السائلَ: سائل کو واپس کرنا۔ لوٹا دینا۔

۲۔ عَادَ ـُ عَوْدًا فلانًا بالمعروف: سے احسان اور بھلائی کرنا۔ ـــ هُ: کو عادت بنالینا۔ ـــ عَوْدًا و عَوْدَةً و مَعَادًا لكذا او إلى كذا: کی طرف مائل ہونا، اعراض کے بعد کی طرف واپس ہونا، کہا جاتا ہے: عاد عليَّ من فلان مكروهٌ: فلاں کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچی۔ عَوْدًا و عِيَادًا الشيءَ: کو دوبارہ کرنا۔ اسی سے ضرب المثل ہے۔ العَوْدُ اَحْمَدُ: کوئی کام دوبارہ کرنا زیادہ اچھا ہے۔ ـــ الامرُ كذا: کچھ ہو جانا۔ یہ افعال ناقصہ سے ہے۔ کبھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال کیلئے آتا ہے۔ جیسے: عاد فلانٌ شيخًا: فلاں جواں سے بوڑھا ہو گیا۔ ـــ عَوْدًا و عِيادًا و عِيادةً و عَوادةً المريضَ: بیمار پرسی کرنا، بیمار کی عیادت کرنا۔ صفت عائد جمع عُوّاد اور عُوْد و عُوّدم عائدة جمع عُوَّد اور مریض کو مَعُود و مَعْوُود کہتے ہیں: یعنی وہ بیمار جس کی عیادت کی گئی ہو۔ عَوَّدَ فلانًا كذا: کو کسی چیز کا عادی بنانا۔ عَيَّدَ تعييدًا: عید میں حاضر ہونا۔ عَاوَدَ مُعَاوَدَةً و عِوادًا الرجلُ: پہلے معاملہ کی طرف واپس ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو اپنی عادت بنالینا، کہا جاتا ہے: عَاوَدَتْهُ الحُمَّى: کو بار بار بخار آنا۔ عَاوَدَه بالمسالةَ: سے بار بار سوال کرنا۔ عَايَدَهُ: کو عید کی آمد کی مبارکباد دینا۔ اَعَادَ اِعَادَةً الامرَ او الكلامَ: معاملہ یا گفتگو کو دوہرانا۔ ـــ الشيءَ إلى مكانه: کو اس کی جگہ لوٹانا۔ ـــ الشيءَ: کو عادت بنالینا اور اس کو برداشت کرنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مايُبعِد و مايُبدِي: وہ کوئی حیلہ نہیں کر سکتا۔ رايتُ فلانًا مايبدي و مايعيد: میں نے فلاں شخص کو دیکھا جو کچھ بات نہیں کرتا۔ تَعَوَّدَ تَعَوُّدًا الشيءَ: کو اپنی عادت بنالینا، کا عادی ہو جانا۔ ـــ المريضَ: بیمار پرسی کرنا، بیمار کی عیادت کرنا۔ تَعَاوَدَ القومُ في الحرب: جنگ میں ہر فریق کا اپنے ساتھیوں کی طرف واپس لوٹنا۔ اِسْتَعَادَ اسْتِعَادَةً هُ: سے لوٹنے کی درخواست کرنا۔ ـــ الشيءَ: کا عادی ہونا، خوگر ہونا۔ ـــ الشيءَ فلانًا و من فلان: سے چیز لوٹانے کو کہنا۔ العائِدة جمع عَوَائِد: بھلائی، صلہ، مہربانی، منفعت۔ ـــ جمع عُوَّد و عَوَائد و عائِدات: عائد کا مونث۔ المَعُود (مص): پرانا راستہ، کہا جاتا ہے: رجع عَوْدًا على بدء یا رجع عَوْدُهُ علی

بَــدْئِـــهٖ: اس کا سفر ختم نہیں ہوا تھا کہ واپس آ گیا۔ الـعَوَّاد: بھلائی کا کام، مہربانی، کہا جاتا ہے: ان لك عندنا عَوَّادًا حسنًا: تمہارے لئے ہمارے پاس وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ (عواد تثلیث عین کے ساتھ آتا ہے) العُوَادَة (مص): کھانا جو ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ مہمان کے لئے لایا جائے۔ کہا جاتا ہے: لك العُوَادَة یالك العَوْد و العَوْدَة: تمہیں حق حاصل ہے کہ وہی کام اور دوبارہ کرو۔ الـعِيْـد: بار بار آنے والی بیماری، غم یا فکر وغیرہ۔ اس کی اصل عِـــوْد جمع اعیاد: موسم، ہر وہ دن جس میں کسی بڑے آدمی یا کسی بڑے واقعہ کی یاد منائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے عید اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سال نئی خوشیوں کے ساتھ لوٹ کر آتی ہے۔ الـعَادَة جمع عَادات و عاد و عِيد و عَوَائد: عادت، گویا عَوَائِد عائِدة کی جمع ہے۔ العَادِيّ جمع عَادِيّات: جس کام کی عادت ہو۔ الأَعْـوَد: زیادہ نفع بخش، کہا جاتا ہے: هـذا اعْـوَدُ علیك: یہ تمہارے لئے سب سے مفید ہے۔ المَعَاد (مص): لوٹنے کی جگہ آخرت، جنت، حج۔ و المَعَادَة جمع مَعَاوِد: رونے، نوحہ کرنے کی جگہ۔ الـمُعِـيد (فا): حاذق، ماہر، تجربہ کار۔ معاملات کو جاننے والا، بار بار جہاد کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: فَـرَسٌ مُبْدِئٌ مُعِيد: سدھایا ہوا گھوڑا۔ المُعَاوِد (فا): ہمیشہ کرنے والا، اپنے کام میں ماہر، جوانمرد، ہیرو۔

۳۔ عَوَّدَ البَعِيرُ: اونٹ کا بوڑھا ہو جانا۔ ـــ الرجُلُ: عمر رسیدہ ہونا۔ العَوْد جمع عِوَدَة: بوڑھا اونٹ، بوڑھی بکری۔

۴۔ عـاد: عرب بائدہ کا ایک شخص، قبیلہ جو اس کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے: ما ادری ایُّ عادهو: مجھے معلوم نہیں وہ کون ہے۔ العَادِيّ جمع عادِيّات: قبیلہ عاد کی طرف نسبت سے قدیم اقوام کے کھنڈرات۔ پرانی چیز۔ العُوْد جمع عیدان و اَعْوَاد و اَعْوُد: لکڑی۔ کٹی ہوئی ٹہنی۔ ایک قسم کی خوشبو جس کو بطور بخور استعمال کرتے ہیں۔ زبان کی جڑ کی ہڈی۔ (مو): سارنگی، کہا گیا ہے کہ اس کا لفظ عبرانی عُوْجَب سے بنایا گیا ہے۔ جس کا معنی 'محبوب' ہے۔ عــود الصليب (ن) و عود القرح۔ عود الانجبار: پودوں کے نام عَــوَّاد (مـو): سارنگی بجانے والا۔ المُتَعَيِّد: غضبناک، سخت ظالم۔

○ عَـادَ ـُ عَوْدًا و عَوْدَةً و مَعَادًا لِ / الی: کی طرف لوٹنا، واپس آنا۔ ـــ: واپس بہہ جانا۔ ـــ الی: کے پاس واپس جانا، لوٹنا، سے سراغ ملنا، سے منسوب ہونا۔ پر محمول کرنا، کی طرف واپس آنا، کی طرف پلٹ کر آنا، سے متعلق ہونا، کے حصہ میں آنا، کے لئے مناسب ہونا۔ ـ عن: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، سے پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، سے مستعفی ہونا، دستبردار ہونا، عـادب. کے ساتھ لوٹنا، کو واپس لانا، کو واپس کرنا۔ عـاد علیه ب: کیلئے کا باعث ہونا، کے لئے لازمی یا قدرتی نتیجہ ہونا، کے لئے کا انجام ہونا، نتیجہ ہونا، کوئی چیز کسی کو واپس کرنا۔ ـــ ہ: ہو جانا، کو میں تبدیل کرنا۔ عـاد الی نـفـسـه: ہوش میں آ جانا، اپنے آپ سے مشورہ کرنا، اپنے آپ سے باتیں کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے گریبان میں جھانکنا۔ عـادت المیاه الی مجاریها: صورت حال معمول پر آ گئی۔ عـاد الی رأس امره: کسی کام کو دوبارہ کرنا۔ عـاد ادراجه: جس راہ سے آیا ہو اسی راہ پر جانا واپس چلا جانا۔ عـاد عـلی عقبیه جمع عادوا علی اعقابهم: واپس چلے جانا۔ لم اعد استطیع صبرا: میں مزید صبر نہیں کر سکا۔ لـم يـعدله طاقة به: اس کے پاس ایسا کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ لم یعد الیه سبیل: اس کا اب کوئی امکان نہیں رہا۔ عاد یـقول: رک کر پھر کہنے لگنا۔ عَوَّده ہ ہ / عـلی: کو کا عادی بنانا۔ عـاوَدَه / ہ: کی طرف لوٹنا۔ ـــ ہ: کی طرف لوٹنا، نئے سرے سے کوشش کرنا، کو دوبارہ یا پھر شروع کرنا۔ ـــ ہ: کو دوبارہ آلینا، دبوچ لینا (جیسے بیماری کا)۔ ہ: سے آملنا۔ اَعَادہ ہ إلی: کو کی طرف واپس کروانا، کو کے پاس واپس لانا، کو کی طرف واپس لیجانا، کو۔ کو واپس کرنا، کو۔ کو واپس دینا، کو۔ کو واپس بھیجنا۔ ہ الی محله: کو اس کی جگہ واپس رکھنا۔ ہ علی: کو کے سامنے دوہرانا۔ ـــ ہ: کو دوبارہ کرنا یا از سر نو کرنا، کو دہرانا، کو بار بار کہنا، دہرانا، کو نیا بنانا، کی تجدید کرنا، کو پھر شروع کرنا۔ ـــ ہ: کو کوئی چیز واپس دینا، کو ایک بار پھر بنانا۔ ہ: کو بحال کرنا، اعاد بناء مسجد: مسجد کی دوبارہ تعمیر کرنا۔ اعـاد ذکریات: یادیں تازہ کرنا۔ اعـاد طبع الکتاب: کتاب کو دوبارہ چھاپنا۔ یُعِـيد القولَ و یبدأه: وہ اس کے بارہ میں کہتا رہتا ہے، وہ موضوع پیش کرنا جاری رکھتا ہے۔ اعـاد النظر فی: کا دوبارہ جائزہ لینا، کی دوبارہ تحقیق کرنا، پر دوبارہ غور کرنا، کی جانچ پڑتال کرنا، کا جائزہ لینا، کی تنقیح کرنا، کو جانچنا، کی تصدیق کرنا، پر نظر ثانی کرنا، کا دوبارہ مطالعہ کرنا۔ اعاد النظر فی الدعوی: مقدمہ کی دوبارہ سماعت کرنا۔ تَـعَوَّد ہ / عـلی: کا عادی ہونا، کو اپنی عادت بنا لینا۔ کو کرتے رہنا۔ اعـتـاد بمعنی تَـعَـوَّد۔ استـعـاده ہ ہ: کو واپس بلا لینا، کو یاد کرنا۔ ـــ ہ من: سے کی واپسی کا مطالبہ کرنا، سے کی واپسی کی درخواست کرنا۔ ـــ ہ: کو دوبارہ لے لینا، کو دوبارہ پالینا، کو بحال کرنا، کو دوبارہ فتح کرنا، کو واپس لانا، لے آنا، اٹھا لانا، کو دوبارہ حاصل کرنا (گھاٹا) پورا کرنا، (کھوئی عزت) دوبارہ پانا، کو یاد کرنا، کو دوبارہ ذہن میں لانا۔ ـــ ہ / ہ: سے کو دہرانے کیلئے کہنا۔

عُوْد جمع اَعْواد و عِيدان: لکڑی، ٹہنی، شاخ، چھڑی، بید، پچھی، ڈنڈا، لاٹھی، لٹھ، کھمبا، جریب، تنہ، ڈنڈی، ڈنٹھل، بید، اوکھ، ایکھ، گنا، نرسل، نے۔ لوت (Lute) جسم، بناوٹ، جسم کی ساخت، طاقت، قوت، زور، شدت، جمع اعــواد: پوری شدت (جیسے بیماری کی) عُود الثقاب: ماچس، ماچس کی تیلی۔ عود الکبریت: ماچس، ماچس کی تیلی، رخـاوة العود: کردار کی کمزوری۔ صُلْبُ العود: مضبوط جسم والا، مضبوط جسمانی ساخت والا، ہٹا کٹا، موٹا تازہ، قوی ہیکل، ضدی، سرکش، ہٹ دھرم، مزاحمت کرنے والا، نہ ماننے والا، سخت، نہ جھکنے والا، بے رحم، بے درد۔ صَلَابَةُ العُود: سختی، سخت گیری، شدت، ضد، ہٹ دھرمی، بے لوچ ہونا، غیر فہم پذیری، بے رحمی، بے دردی۔ لَـدْنُ العُود: لچکدار، ملائم جسم والا۔ ثَـقَّفَ عُـوْدَهٗ: کو تربیت دینا، تعلیم دینا، تعلیم سے آراستہ کرنا۔ عـجـم عُوْدَہ: کا امتحان لینا، کی آزمائش کرنا، کسر عوده: کا زور توڑنا، کی مزاحمت ختم کرنا، کی ہمت کچلنا، کا حوصلہ ختم کرنا۔ عَـــوْد: واپسی، رجوع، اعادہ، بار بار ہونا، دہرانا، بار بار دہرانا۔ فـعله عَوْدًا و بَدْءًا یافـلعه عَوْدَه علی بـدئه یافـعلـه عودا الی بدءٍ: اس نے یہ سب کچھ دوبارہ کیا یا شروع کیا۔ عَوْدَة: واپسی۔ بعودة البرید: بواپسی ڈاک۔ الی غیرِ عَوْدَةٍ: دوبارہ واپس نہ آنے کیلئے، ہمیشہ کیلئے، اچھی خلاصی، ہمیشہ کیلئے خدا حافظ، الوداع، عَادَة جمع عادات و عَوَائِد: عادت، دستور، رواج، رسم، سلوک، پریکٹس عــادَةً: عام طور پر، عموماً، رواجاً، معمولاً بالعموم عـادَة جمع عَـوائِد: ٹیکس (جمع) محصولات، قیمت، اجرت، خرچ، خرچہ (Charges) فـوق العـادة: غیر معمولی، حیرت انگیز، شاذ، خاص، خصوصی، ہنگامی (جیسے ہنگامی اجلاس)۔ علی عادته: حسب عادت، حسب معمول۔ کَمَـا بِقِ العادةِ: جیسا کہ پہلے معمول تھا، حسب معمول۔ جَـرَتِ العـادةُ ب: کا معمول ہونا، کا رواج ہونا، کے مطابق ہونا، کا معمول کے مطابق ہونا، کا حسب عادت ہونا، کا رائج ہونا، مروجہ ہونا، رائج الوقت ہونا، عام ہونا، کا رواج ہونا، کا عام ہونا، عام مظہر ہونا، کا عام دستور ہونا،

جرت بذلك عادتهم: وہ ان کی عادت تھی، وہ ایسا کرنے کے عادی تھے۔ العادة السرّیّة: جلق، مشت زنی، ہتھ رسی، عَـوائِدُ الـجُمْرُك: کسٹم کے محصولات۔ عـوائـدُ مبـانٍ: مکانات کے ٹیکس (House taxes)۔ عوائدُ الاملاك: غیر منقولہ جائیدادوں پر نافذ ٹیکس۔ عـادی: رواجی، حسب معمول، معمول کے مطابق عام، حسب عادت، عام، معیاری، نارمل، باقاعدہ، پابندی کیساتھ، سادہ، معمولی، قدیم، پرانا، عتیق۔ عـادِیات: باقیات آثار۔ آثار قدیمہ، اثریات۔ عیادة جمع عِیادات: کلینک، طبیب سے مشورہ کا کام۔ عیادة خارجیة: پولی کلینک، بیرونی مریضوں کا کلینک۔ المبدأ و المعاد: (کسی مسئلہ کا) مشکل حصہ (کا) انتہائی اہم عنصر۔ إعادةُ البناء: دوبارہ تعمیر۔ اعـادة الحقوق: آبادکاری۔ اعـادة التسلح: دوبارہ مسلح ہونا۔ اعادة الشئون علی ما کـانت علیه: پہلی حالت کا بحال کرنا۔ اعـادة التکوین: از سر نو تخلیق۔ اعادة التنظیم: از سر نو تنظیم۔ عـائـد: واپس آنے والا، لوٹنے والا، بار بار ہونے والا، ملنے والا (منافع وغیرہ) ـل/ الی: سے متعلق، کے لئے مناسب، موزوں جمع عـائـدون: واپس آنے والے تارک وطن، دوبارہ تارک وطن جمع عُوّاد: مزاج پرسی کرنے والا۔ عـائدات: آمدنیاں، مداخل۔ عـائد الارباح: اصل یا خالص نفع، فائدہ۔ عَائِدة جمع عَوائِد: نفع، منافع۔ ـــ علی: کے لئے فوقیت، غلبہ، فائدہ۔ عـائدیه: کے متعلق ہونا، کا حصہ ہونا۔ رکنیت۔ مُعَوَّد علی: کا عادی، خوگر، مُعِید جمع مُعِیدون: دہرانے والا، خانگی معلم، اتالیق، کھیلوں کا استاد (Coach) (یونیورسٹی میں) ورزشیں کرانے کیلئے متعین معاون۔ مُتـعَـوِّدٌ علـی: (کا) عادی، خوگر۔ مُعْتـاد علی: کا عادی، خوگر۔ ـــ حسب معمول، معمول کے مطابق، عام، نارمل کـالمعتاد: حسب معمول۔ معتادُ الجرائم: عادی مجرم۔

عاذ: عَاذَ ـُ عَوذًا و عِیاذًا و مَعاذًا و مَعَاذَةً بفلان من کـذا: سے کی پناہ لینا یا پناہ میں آنا کہا جاتا ہے: اعـوذ بـالله من الشیطان الرجیم: میں شیطان ملعون سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ـــ بالشیٔ: کے ساتھ لگنا۔ عَوَّذ تَوِیذًا الرجُلَ: کو تعویذ پہنانا۔ ـــ و أعاذَ إعاذَةً و أعْوَذ إعْوَاذًا الرجُلَ: کے لئے محفوظ رہنے کی دعا کرنا۔ اسے أُعِیذُكَ بـالله کہنا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے: کہا جاتا ہے تَعَوَّذَ و اسْتَعاذ بالله فاعاذه و عَوَّذَه: اس

نے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ إعـاذَةً و اَعْوَذَا الرجُلَ: پر جادو کرنا۔ تَـعَـوَّذَ و استعاذ بفلان من کذا: سے کی پناہ لینا، سے کی پناہ میں آنا۔ تَـعَـاوَذَ القـومُ: ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا۔ ایک دوسرے کی پناہ لینا۔ العائِذ جمع عُوَّذ: اسم فاعل۔ ـــ جمع عُوذ و عُوذان و جج عُوذات: نئی جننے والی ہرنی، اونٹنی یا گھوڑی۔ العـائِذة جمع عَوائِذ و عائذات: عائذ کا مونث۔ العـوائـذ (فلك): چار ستارے جن کے درمیان میں ایک ستارہ ربع نام کا ہے۔ العَـوذ: پناہ لینا، کہا جاتا ہے: عوذٌ بالله منك یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ المعـوَذ: جائے پناہ کراہت، گرا ہوا پتہ، ناکس و فرومایہ لوگ۔ العَوَاذ: کراہت، کہا جاتا ہے۔ ما ترکت فلانًا الا عواذًا منه: میں نے فلاں شخص کو صرف کراہت کی وجہ سے چھوڑا۔ العُوذة جمع عُوَذ و التعویذ جمع تعَاوِیذ: تعویذ، پاگل پن اور نظر لگنے سے بچانے کیلئے لکھے ہوئے اسماء و آیات وغیرہ جو گلے وغیرہ میں باندھے جاتے ہیں۔ الـعِـیـاذ: پناہ گاہ۔ کہا جاتا ہے: العِـیاذ بالله منك: میں تم سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ المَـعَاذ (مص): جائے پناہ، جادو، کہا جاتا ہے۔ مَعَاذَ اللهِ و مَعَاذَو جه الله: میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ المَـعَاذة جمع مَعَاذات: تعویذ کہا جاتا ہے: مَعَاذَةَالله و مَعَاذة وجه الله: میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ المُعـوَّذ: پنگا ڈالنے کی جگہ۔ گھروں کے اطراف میں اونٹوں کی چراگاہ۔ ـــ و المُعوَّذ و الـعُـوَّذ: کانٹوں یا درختوں کی جڑوں میں یا پتھروں کے نیچے اگی ہوئی نباتات۔

عَـاذَ ـُ عَـوْذًا و عِیاذًا و معاذًا ب من: سے یا کے خلاف کی حفاظت چاہنا، سے کی پناہ لینا۔ اَعُـوذُ بالله: اللہ نہ کرے۔ اللہ مجھے اس سے بچائے۔ عَوَّذه من: کو سے بچانا، کی سے حفاظت کرنا۔ ہ: پر جادو کرنا، کو جادو، منتر، تعویذ یا گنڈے کے ذریعے مستحکم کرنا۔ اَعْوَذ بمعنی عوَّذ نیز اعَوذَه: کو اللہ کی حمایت میں دینا، اللہ سے دعا کرنا کہ وہ اسے حفاظت میں رکھے۔ تعَوَّذ بمعنی عَاذَ۔ استعوذ بمعنی عاذ نیز اِستَعْوَذ ب: اپنے آپ کو کے ذریعے محفوظ کرنا، اپنے آپ کو کے ذریعہ شکار ہونے سے بچانا۔ عَـوْذ: پناہ لینا، پناہ لینے کا عمل۔ عَـوْذ: پناہ، جائے پناہ، پناہ گاہ، ملجا۔ ماوی، گوشہ تنہائی، مامن۔ عُوذة جمع عُوَذ: تعویذ، گنڈا، جادو، سحر، افسون، ٹونا، ٹوٹکا، منتر۔ عـیاذ: پناہ لینا، پناہ لینے کا عمل یا پناہ لینے کا اظہار۔ عـیاذَ الـلّـه یا

العیاذُ بالله: اللہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ (مجھے یا ہمیں) اس سے بچائے، محفوظ رکھے۔ معاذ الله: یہی معنی۔ مـعـاذ: پناہ لینا، پناہ لینا کا عمل یا اظہار، پناہ، جائے پناہ، پناہ گاہ ملجا، ماوی، مامن۔ تعویذ جمع تعاویذ بمعنی عُوذة

عور: ا۔ عَارَ ـُ عَوْرًا هُ: کو کانا کر دینا۔ عوِرَ ـَ عَوَرًا: کانا ہونا۔ ـــ العینُ: آنکھ کا کانا ہو جانا۔ صفت مذکر اَعْوَر: صفت مونث عَوْراء جمع عُور و عُوران۔ عَوَّرَه: کو کانا کر دینا۔ ـــ علیه امرَهُ: کو اس کے کام کی وجہ سے ملامت کرنا، کے کام کی قباحت ظاہر کرنا۔ ـــ عن فـلان: کے بارے میں تکذیب کرنا اور جواب دینا۔ عَاوَرَ مُعَاوَرَةَ الشمسَ: کو توجہ سے دیکھنا، پر نگاہ رکھنا۔ اعْـوَرَ اعْوِرَارًا: کو کانا کرنا۔ اِعْوَرَّ: کانا ہو جانا۔ ـــ واعْوَارّت العینُ: آنکھ کا کانی ہونا۔ استعْوَرَ الرجُلُ: تنہا ہونا۔ العائر (فا): جس کی آنکھ میں تنکا ہو، آنکھ کا دکھنا۔ تنکا، ہر وہ چیز جو آنکھ کو تکلیف دے۔ ـــ من السهام و الحجارة: تیر یا پتھر جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔ کہا جاتا ہے: اصابه سهم او حجر عـائرٌ: اسے تیر یا پتھر لگا جس کو پھینکنے والا معلوم نہیں۔ العائِرة جمع عَوائِر: عائر کا مونث۔ کثرت، کہا جاتا ہے: لَهُ من المال عائرة عینین: اس کے ہاں اتنا مال ہے جو آنکھوں کو بھر دیتا ہے۔ عینٌ عائرة: تنکے والی آنکھ۔ الـعَـورم عَورِة: بدسیرت (شخص)۔ الأعْوَر م عَوْراءُ جمع عُورٌ و عُوران و عِیران: کانا، یک چشم۔ ـــ جمع اَعَاوِر (ح): کوا، جس کا کوئی سگا بھائی نہ ہو۔ ردی چیز، ضعیف، بزدل، کند ذہن، غلط راہ پر چلنے اور چلانے والا، بے فیض، برا گائیڈ، وہ راہ جس میں کوئی نشان نہ ہو۔ کـلمةٌ عوراء: کلمہ قبیحہ۔ العُوَّار جمع عَـوَاویر: تنکا، راہ سے ناواقف، کمزور، بزدل۔ العُوَیر (ح): کوا۔ رجلٌ مُعْوَرٌ: بدسیرت۔

۲۔ عَارَ ـُ عَورًا عینَ الماء او الرکیّةَ: مٹی سے پانی کے چشمے یا کنویں کو بند کر دینا۔ ـــ ث عینُ الماءُ او الرکیّةُ: پانی کے چشمے یا کنویں کا بند ہو جانا۔ ـــ الشیٔ: کو لے جانا اور تلف کر دینا۔ عَـوَّرَ عینَ البئر: کنویں کو مٹی سے بند کر دینا نتیجتاً اس کا خشک ہو جانا۔ أعَارَ عینَ الماء اوَ الرکیّةَ: پانی کے چشمے یا کنویں کو مٹی سے بند کر دینا۔ الاعْوَر جمع أعَـاوِر: پھٹی ہوئی کتاب۔ فـلاةٌ عوراء: بے آب جنگل۔ المعانی العُورُ: مشکل معانی۔

۳۔ عَـوَّرَ المَـكـاییلَ: پیمانوں کا اندازہ لگانا۔ عَـاوَرَ و عَایَرَ المکاییلَ: پیمانوں کا اندازہ لگانا۔

۴۔ عَوَّرَہٗ عن الامر: کو سے باز رکھنا۔ ــ فلاناً: کولوٹا دینا اوراس کی ضرورت پوری نہ کرنا۔

۵۔ اَعْوَرَ اِعْوارًا الشیُّ: ظاہر ہونا، کے چھپے ہوئے حصے نظر آنا۔ الفارسُ: سوار میں نیزہ لگنے کی جگہ کا دکھائی دینا۔ ــ الرجُلُ: شک کرنا۔ العَوْرَۃ جمع عَوْرَات وعَوَرَات: سرحدوں وغیرہ میں پڑنے والا خلل، جس سے ڈر آئے، چھپانے کی جگہ، ہر وہ امر جس سے شرم آئے، شرم کی بات، اعضاء جن کو انسان شرم کی وجہ سے چھپاتا ہے۔ ــ من الجبال: پہاڑ کے شگاف۔ العَوَار والعِوار والعُوَار: عیب، کپڑے کی پھٹن، کہاجاتا ہے: سلعۃ ذات عَوَارٍ: سامان تجارت جس میں کوئی عیب ہو۔ العَوَارِیَّۃ (ت): سامان تجارت جسے سمندر کے پانی سے نقصان پہنچا ہو اور اس کی قیمت گرگئی ہو۔ شیٌ عَوِر: وہ چیز جس کا کوئی نگہبان نہ ہو۔ المُعْوِرُ من الامکنۃ: خوفناک جگہ، شیٌ مُعْوِرٌ: چیز جس کا کوئی نگہبان نہ ہو۔

۶۔ اَعَارَ اِعَارَۃً الشیَّ و من الشیِ: کوکوئی چیز عاریۃً دینا۔ عاور مُعَاوَرَۃً الشیَّ: کے ساتھ وہی کرنا جو چیز کے مالک نے اس کے ساتھ کیا ہو۔ کو کوئی چیز عاریۃً دینا۔ تَعَوَّر القومُ الشیَ: کو ایک دوسرے سے لینا۔ العاریۃ: کوئی چیز مانگنا۔ تعاوَر واعْتَوَرَ القومُ الشیَّ: باری باری کسی چیز کو ایک دوسرے کو دینا، لینا، کہاجاتا ہے۔ تعاورت الریاحُ رسم الدار: مکان کے نشانات وآثار پر مختلف قسم کی ہواؤں کا چلنا، کبھی جنوبی، کبھی شمالی، کبھی غربی اور کبھی مشرقی۔ اِسْتَعَارَ الشیَٔ من فلان واستعار فلانًا الشیَ: سے کوئی چیز عاریۃً مانگنا۔ اس سے ہے: اَرَی الدھرَ یستعیرنی ثیابی: میں دیکھ رہا ہوں کہ زمانہ میرے کپڑے عاریۃً دینے کو کہتا ہے۔ یہ اس وقت کہاجاتا ہے جبکہ آدمی بوڑھا ہوجائے اور اسے موت کا خوف ہو۔ العَارۃ والعَارِیَۃ والعَارِیَّۃ جمع عَوَارِی: مانگی ہوئی چیز۔ وہ چیز جس کا آپس میں لین دین کریں۔

۷۔ العَوْرَۃُ من الشمس جمع عورات و عَوَارات: سورج کی جائے طلوع وغروب۔ العَوائر من الجراد: ٹڈیوں کی متفرق ڈاریں۔ العُوّار جمع عَوَاوِیر (ح): ابابیل۔ العیران: ٹڈی کی متفرق ڈاریں۔ المُعَار: دبلا کیا ہوا گھوڑا۔ بعض کے نزدیک نچی ہوئی دم والا گھوڑا۔

○ عَوِرَ ـ عَوَرًا: ایک آنکھ سے محروم ہونا، یک چشم ہونا یا ہوجانا۔ عَوَّرَہٗ: کو ایک آنکھ سے محروم کرنا، یک چشم کر دینا۔ ھ: کو نقصان پہنچانا، خراب کرنا، بگاڑنا۔ ــ ھ: (پیمانوں یا باٹوں کا) کو ناپنا، جانچنا، کا اندازہ کرنا (پیمانوں اور باٹوں کی) درستی وصحت کا تجربہ کرنا، کی آزمائش کرنا کو جانچنا۔ اَعْوَرَہٗ ھ: کو کوئی چیز عاریۃً دینا، مستعار دینا، ادھار دینا۔ تعاوَرَ ھ: میں باری باری ہونا یا ہونے دینا، کو باری باری کرنا، کو باری باری لینا۔ ــ ہ/ ھ: کو باری باری پکڑنا، گرفت میں لینا، پر پڑنا واقع ہونا، کو زیر کرنا، کو قابو میں لانا، پر قابو پانا۔ اِعْتَوَرَہٗ: پر باری باری، واقع ہونا، پڑنا، کو لگنا، پر اثر انداز ہونا۔ ــ ھ: (مختلف العناصر اثرات یا عوامل کا) کو بنانا، صورت دینا، ڈھالنا۔ ــ ھ: کی راہ میں حائل ہونا، کو روکنا۔ اِسْتَعْوَرَ ھ من: سے ادھار لینا، عاریۃً لینا۔ عَوْرَۃ: نقص، عیب، کمی، خامی، ادھورا پن، ناتمامی، کمزوری، خرابی جمع عورات: اعضائے تناسل، کمزوری، خامی۔ عَوار و عِوار: عیب، ناتمامی، خرابی، نقص، غلطی، خطا، قصور، رخنہ، داغ، دھبہ۔ عُوّار: ابابیل۔ عِیرۃ: (نقلی) دانت، بال۔

اَعْوَر م عوراء جمع عُور: یک چشم۔ اِعارۃ: مستعار دینا، عاریۃً دینا۔ مکتبۃ اِعارِیّہ: کتابیں مستعار دینے والی لائبریری، گشتی لائبریری۔ تعاوُر: تبادل، اتار چڑھاؤ، تبدیلی، تغیر فرق۔ اِستعارۃ: ادھار لینا، استعارہ (metaphor)۔ استعاری: استعارے والا (melaphrical)۔ صنائع بدائع سے پر figurative۔

عاریۃ: ادھار لی ہوئی چیز، ادھار لینا، قرض، ادھار، قرضہ۔ مُعیر: مستعار دینے والا۔ مُعار: مستعار ادھار دیا ہوا۔ مُستعیر: ادھار لینے والا۔ عاریۃً لینے والا۔ مُستعار: ادھار لیا ہوا۔ استعارۃً استعمال کیا ہوا نقلی (جیسے بال)، اسم مُستعار: قلمی نام تخلص Psendonym وجوہ مُستعارۃ: مصنوعی چہرے (masked faces)، منافقین (hypocrites)۔

عاز: ا۔ عَازَ ـ عَوْزًا الشیُّ فلانًا: کیلئے باوجود ضرورت کے چیز کا کمیاب ہونا۔ عَوِزَ ـ عَوَزًا الشیُّ: کمیاب ہونا۔ ــ الامرُ: سخت ہونا۔ ــ الرجُلُ: محتاج ہونا صفت عَوِز وعَائز و اَعْوَز ــ اَعْوَزَ اِعْوازًا الرجُلُ: محتاج ہونا، بدحال ہونا۔ صفت مُعْوِز ومُعْوَز ــ الشیُّ: دشوار ہونا۔ الدھرُ فلانًا: زمانہ کا کسی کو محتاج کردینا۔ ــ ہٗ المطلوبُ: کو مقصود کا عاجز کردینا اور اس پر یا اس کے لئے اس کا حصول مشکل ہوجانا۔ اَعْوَزَ فی الشیُّ: کا محتاج ہونا اور اسے نہ پاسکنا۔ اِعْوَزَّ اِعْوِزازًا: ناقص ہونا یا ہوجانا، غیر متوازن ہونا۔ العَوَز: ضرورت، تنگی۔ المُعْوِز والمِعْوَزُ جمع مَعَاوِزُ ومَعَاوِزَۃ: پرانا بوسیدہ کپڑا۔

۲۔ اِعْوَزَّ اعوِزازًا: حیلہ کرنا۔

۳۔ العَوْز (واحد عَوْزَۃ): انگور کا دانہ۔ المِعْوَز والمِعْوَزۃ جمع مَعَاوِزَۃ: ہر وہ کپڑا جس سے دوسرے کی حفاظت کی جائے۔

○ عَوِزَ ـ عَوَزًا: غریب، ضرورت مند یا قلاش ہونا یا ہو جانا۔ عَازَ ـ عَوْزًا ھ: کی ضرورت ہونا، کا ضرورت مند ہونا۔ اَعْوَزَ: مفلس، ضرورت مند یا قلاش ہونا یا ہوجانا۔ اَعْوَزَہُ الشیُّ: کو نہ رکھنا، سے محروم ہونا، کو کی کمی ہونا، کو کی قلت ہونا (اس کے پاس یہ چیز نہیں تھی، اسے اس کی ضرورت تھی، وہ اس کا حاجتمند تھا)۔

عَوَز: کمی، قلت، حاجت، ضرورت، احتیاج، افلاس، بے نوائی، افلاس، مفلسی محتاجی۔ عَوِز: غریب، ضرورت مند محتاج مفلس، قلاش۔ عازۃ: کمی، قلت، احتیاج، ضرورت، غربت، افلاس، مفلسی۔ اَعْوَز: غریب، ضرورت مند، محتاج، مفلس، قلاش۔ حاجت مند۔ اعاویز (جمع) اِعواز: بمعنی عَوَز۔ عائز: بمعنی اَعْوَز۔ مُعْوِز جمع مُعْوِزُون: جس کی روزی کا کوئی بندوبست نہ ہو، کنگال محتاج، مفلس۔

عاس: ا۔ عَاسَ ـ عَوْسًا وعَوَسَانًا: رات کے وقت چکر لگانا۔ ــ عَوْسًا وعِیاسۃَ الذئبُ: بھیڑیے کا رات کو خوراک تلاش کرنا۔

۲۔ عَاسَ ـ عَوْسًا و عَوَسَانًا علی عیالہ: اولاد کے لئے محنت سے کمانا۔ ــ عِیالَہٗ: کو خوراک دینا۔ ــ عَوْسًا معیشتَہٗ: اپنی معیشت کو درست کرنا۔

العَوّاس: مبالغہ کا صیغہ۔

۳۔ عَاسَ ـ عَوْسًا الشیَّ: کی تعریف کرنا۔

۴۔ عَوِسَ ـ عَوَسًا: ہنستے وقت رخسارے میں گڑھا پڑنا۔ صفت اَعْوَس۔

۵۔ العُوس (ح) سفید مینڈھے۔ نسبت کیلئے عُوسِیّ: کہاجاتا ہے کبش عُوسِیّ۔ العُوَیْسَۃ او العُوَیْسِیَّۃ: جیب کا چاقو (عام زبان میں)۔

عاص: ا۔ عَاصَ ـ عَوْص ــ عِیاصًا و عَوَصًا الشیُّ: سخت ہونا، مشکل ہونا۔ ــ الکلامُ: کلام کا سمجھنے میں دشوار ہونا۔ عَوِصَ قول وعمل میں راہ راست پر نہ ہونا۔ ــ الشاعرُ او الخطیبُ: شاعر کا ایسا شعر کہنا جس کا سمجھنا دشوار ہو۔ مقرر کا ایسی بات کہنا جس کا سمجھنا مشکل ہو۔ اَعْوَصَ عَوْصًا و عِیاصًا بخصمہ وعلی خصمہ: مدمقابل کو ایسے دلائل دینا جن سے نکلنا اس کے لئے مشکل ہو، یہاں قیاس کے مطابق اعواصا ہونا چاہئے۔ ــ فی الکلام: مبہم گفتگو

کرنا۔ اِعْتَاصَ اِعْتِیَاصًا الامرُ علیه: کے لئے سخت ہونا، دشوار ہونا، پیچیدہ ہونا جس کی بنا پر صحیح بات تک نہ پہنچ سکنا۔ العائِص والعَوِص والعَیْصاء: درشتی، تنگی ضرورت۔ العَوِص: ناممکن، مشکل۔ الاَعْوَص م عَوْصَاء: مبہم، عسیر الفہم۔ العَوْصاء: اعوص کا مونث: درشتی، ضرورت کلمة عَوْصاء: نادر یا عسیر الفہم بات۔ العَوِیْص: درشتی، سختی، شدت۔ — م عَوِیْصَه من الامور: مشکل کام، دشوار کام، بات اور معاملہ۔ — من الکلام: عسیر الفہم، کلام جس کا سمجھنا مشکل ہو۔ — من الدواهی: سخت مصائب۔

۲۔ عَاوَصَ مُعَاوَصَةً: سے کشتی لڑنا۔ العَوْص: قوت، حرکت۔ العَوِیص: قوت، حرکت۔

۳۔ العَوْص والعَوِیص: نفس۔

☪ عَوِصَ ـ عَوَصًا و عیاصًا: مشکل ہونا، مغلق ہونا، عسیر الفہم ہونا۔ اِعْتَاصَ: بمعنی عَوِصَ ـ عَوِیص مشکل، عسیر الفہم، مغلق، غیر واضح اِعتِیاص: مشکل ہونا، اشکال، دشواری، رکاوٹ، روک۔

عاض: عَاضَ ـ عَوْضًا و عِوَضًا و عِیاضًا و عَوَّضَ و عَاوَضَ و اَعَاضَ اِعَاضَةً فلانًا من کذا: کو کا بدلہ دینا۔ تَعَوَّضَ منه: سے بدلہ میں کوئی چیز لینا۔ اِعْتَاضَ فلانًا: سے بدلہ میں کوئی چیز مانگنا۔ — منه: سے بدلہ میں کوئی چیز لینا۔ اِسْتَعَاضَ فلانًا: سے بدلہ میں کوئی چیز مانگنا۔ عَوْضُ (یہ کلمہ مبنی ہے۔ تینوں حرکتوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اسم ظرف ہے۔ مستقبل کی استغراق کا کام دیتا ہے جیسے لا اُفَارِقُكَ عَوْضُ: میں تجھ سے کبھی جدا نہ ہوں گا۔ استغراق ماضی کے لئے بھی آتا ہے جیسے: ما رأیتُ مثله عوضُ: میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نفی کے ساتھ خاص ہے۔ بحالت اضافت مُعْرَب ہوتا ہے۔ جیسے لا اَفْعَلُه عَوْضَ العائضین: میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، بالکل اسی طرح آپ کہتے ہیں: ابدا الابدین، چنانچہ عوض یہاں ظرفیت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ العِوَض جمع اَعْوَاض والعائض والمَعُوضة: بدلا، معاوضہ، عوض۔

☪ عَاضَ ـ عَوْضًا و عِوَضًا و عِیاضًا ٥ من / عن: کو کے بدلے میں کچھ دینا، کو کے لئے بطور قیمت کچھ ادا کرنا، کو کی جگہ کچھ دینا، یا رکھنا یا لگانا، کو کا قائم مقام بنانا، کو کی جگہ رکھنا۔ — ٥ من / عن: کو کا معاوضہ دینا، کو کا تاوان دینا، کو کا ہرجانہ ادا کرنا، کو کا بدلہ دینا۔ — ٥ : کو کی جگہ دینا۔ — ٥ ب: کو کے تبادلہ میں رکھنا۔ — علی ٥: کو (اس کے نقصان) کی تلافی کے طور پر دینا۔ اس جیسی چیز تلافی کیلئے دینا۔ لا یُعَوَّضُ: جس کی جگہ پُر نہ کی جا سکے، ناقابل تلافی۔ عَاوَضَ بمعنی عَاضَ۔ اَعْوَضَ بمعنی عَاضَ۔ تَعَوَّضَ ٥: کچھ بدل میں لینا، وصول کرنا۔ — ٥ من: کو کے بدل کے طور پر استعمال کرنا۔ — ب من: کے لئے کی شکل میں معاوضہ طلب کرنا، کیلئے کچھ بطور معاوضہ لینا۔ — من: کے خلاف پاسنگ حاصل کرنا۔ اِعْتَاضَ ٥ عن / من: کو کے بدل یا معاوضہ میں لینا، وصول کرنا۔ اِسْتَعَاضَ ب عن: کو کے بدل کے طور پر لینا۔ — عن ب: کو سے بدلنا کو سے اولا دبدلی کرنا۔ — عن ب کو کے بدلہ میں دینا، کو کی جگہ رکھنا، کو کا قائم مقام بنانا۔ — عن ب: کے ساتھ کو بدلنا۔ — من: سے کا معاوضہ لینا۔ کے خلاف پاسنگ حاصل کرنا۔ — عن ب: کا کے ذریعے معاوضہ ہونا، کی سے تلافی ہونا، کا کے ذریعے تاوان یا ہرجانہ ہونا۔ عِوَض: بدل، قائم مقام، تلافی، معاوضہ۔ عِوَض: بدلا۔ ہرجانہ، تاوان۔ عِوَضًا عن / من: کے بدل کے طور پر کے قائم مقام کے طور پر، کی جگہ، کے تبادلہ میں، کے معاوضہ میں، کے بجائے۔ تعویض: معاوضہ، تلافی، ہرجانہ، تاوان، ضمانت، حفاظت، خرچ کی ہوئی رقم کی ادائیگی واپس دینا، واپس کرنا، تصفیہ (ان کے ساتھ صلہ عن آتا ہے) جمع تعویضات: بدلہ تلافی، معاوضہ، عوض، پاسنگ، ہرجانہ، ہرجہ، تاوان، بدلہ۔ تعویضی: تعویض سے منسوب۔ مُعَاوضة جمع مُعَاوضات: یکشت رقم کی ادائیگی کا ٹھیکہ۔ استعاضة عن ب: کو کی جگہ رکھنا۔ کو کا قائم مقام بنانا، کی سے اولا دبدلی۔

عاف: ۱۔ عَافَ یَعُوفُ عَوْفًا الطائِرُ: پرندے کا کسی چیز پر یا پانی یا مردار پر منڈلانا۔ تَعَوَّفَ الاسدُ: شیر کا رات میں شکار ڈھونڈنا اور اسے پھاڑنا۔ العَوْف (ح): شیر (ح): بھیڑیا، آل اولاد کے لئے محنت مشقت کرنے والا۔ العُوَاف و العُوَافة: وہ شکار جس کو شیر رات کے وقت پھاڑ کھائے، غنیمت۔

۲۔ العاف: آسان، نرم۔ العَوف: حال، حالت (ح): مرغ۔ — (ح): پرندہ، سخت کوشش، قسمت، یا حصہ، مہمان۔ ابو عوف (ح): نر ٹڈی۔ اُمُّ عوف: مادہ ٹڈی۔

عوق: ۱۔ عَاقَ ـ عَوْقًا و عَوَّقَ اَعَاقَ اِعَاقَةً و اعتاق اعتیاقًا ٥ عن کذا: کو سے روکنا، باز رکھنا، ہٹانا، کہا جاتا ہے: اَعْوَقَ بی الزادُ او الدابَّةُ اِعْوَاقًا: مجھے توشہ یا سواری نے سفر سے باز رکھا۔ تَعَوَّقَ: پیچھے ہٹنا۔ — فلانًا: کو اس کے ارادہ سے باز رکھنا۔ روک دینا۔ العَائِق (فا) جمع عَوَائِق و عُوَّق: ہر روکنے والی چیز۔ ہر مشغول رکھنے والی چیز۔ عَوَائِقُ الدهر: زمانہ کے مشاغل۔ العَائِقَة جمع عَوَائِق: عائق کا مونث، کام سے روکنے والی چیز۔ العَوْق و العُوق جمع اَعْوَاق: ہر روکنے یا مشغول رکھنے والی چیز، لوگوں کے اچھے کاموں سے روکنے والا۔ وادی کا موڑ۔ العُوَق و العَوِق و العِوَق روکنے والا۔ بزدل۔ رجلٌ عُوَقَةٌ و عَیِّقٌ: لوگوں کو اچھے کاموں سے روکنے والا۔ العُوَقَة و العُوَّق و العَیِّق: روکنے والا، بزدل۔ اصل عُوقَة و عُوَّق و عَیِّق: لوگوں کو اچھے کاموں سے روکنے والا۔ العَیُّوق (فلك) ایک سرخ رنگ کا ستارہ، کہکشاں کے دائیں طرف، جو ثریا کے پیچھے رہتا ہے اور اس سے آگے نہیں ہوتا۔

۲۔ العَوْق و العُوق جمع اَعْوَاق: بے فیض شخص۔ العَوَق: بھوک۔ العَائِق (ن): پھولوں کی ایک قسم۔ العُوَاق و العَوِیق: چلتے وقت جانور کے پیٹ سے نکلنے والی آواز۔

☪ عَاقَ ـ عَوْقًا ٥ عن: کو سے روکنا، باز رکھنا، منع کرنا۔ — ٥ ٥: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، میں روڑا اٹکانا، میں رکاوٹ ڈالنا، کو ملتوی کرنا، موقوف کرنا، ٹالنا، میں تاخیر کرنا، کو دیر لگانا، (کام) لٹکائے رکھنا، میں سستی کرنا تاخیر کرنا۔ (کی رفتار کو) کم کرنا۔ عَوَّقَ و اَعْوَقَ بمعنی عَاقَ، تَعَوَّقَ عن: سے رکنا، باز رہنا۔ تَعَوَّقَ: رکنا، راہ میں حائل ہونا، کم ہونا، ملتوی ہونا، موقوف ہونا، موخر ہونا۔ اِعْتَاقَ بمعنی عَاقَ۔ عَوْق: روکنا، راہ میں حائل ہونا، باز رکھنا۔ بٹھائے رکھنا، قابو میں رکھنا، تاخیر کرنا، کم کرنا، ملتوی کرنا، موقوف رکھنا، ٹالنا۔ اِعاقة بمعنی عَوْق۔ عَائِق: رکاوٹ۔ جمع عِیاق: بانکا، چھیلا، چھیل چھبیلا۔ عَائِقَة جمع عَوَائِق: رکاوٹ۔ مانع (جمع موانع) تا کہ۔

عوک: ۱۔ عَاكَ ـ عَوْكًا و مَعَاكًا علیه: پر حملہ کرنا، پر مہربانی کرنا۔ تَعَاوَكَ القومُ: باہم لڑنا۔ اِعْتَوَكَ القومُ: ہجوم کرنا۔ العَوْك (مص): کہا جاتا ہے: مابه عَوْكٌ: اس میں کوئی حرکت نہیں۔ العَوِیكَة و المُعَوِّكَة: لڑائی، قتال۔

۲۔ عَاكَ ـ عَوْكًا و مَعَاكًا علیه: کی طرف متوجہ ہونا۔ — به: کے پاس پناہ لینا۔ المَعَاك: پناہ گاہ۔

۳۔ عَاكَ ـ عَوْكًا و مَعَاكًا مَعَاشَهُ: کمائی کرنا مفت

۴۔ المَعَاك: برداشت، راستہ۔

عول : ۱۔ عَالَ ۔۔۔ عَوْلاً فی حکمه: حکم میں ظلم کرنا، سیدھی راہ سے ہٹنا۔۔۔ عَوْلاً و عَالَ یَعِیلُ عَیْلاً فی المیزان: تولنے میں خیانت کرنا۔ المیزانُ: گھٹنا۔۔۔ ت الناقۃُ ذنَبَھا: اونٹنی کا اپنی دم اٹھانا۔۔۔ ت الفریضۃُ: مقررہ حصہ کا چڑھنا، کے تیروں کا زیادہ ہونا اور نتیجہ میں حصے کم ہوجانا۔ امرُ القوم: مضطرب ہونا، سنگین ہوجانا۔ الشئُ فلاناً: کا کسی پر بھاری ہونا کہا جاتا ہے: عَالَ عَوْلُہُ و عِیْلَ عَوْلُہُ: اس کی ماں نے اسے گم کردیا۔ عَالَ و عِیْلَ صَبْرُہُ: بے صبرا ہونا۔

۲۔ عَالَ ۔ عَوْلاً و عِیالَۃً الرجُلُ: کثیر اولا دوالا ہونا۔۔۔ عَوْلاً و عِیالۃً و عُؤُولاً الرجلُ عِیالَہُ: آل اولاد کے معاش کی کفایت کرنا۔ الیتیمَ: یتیم کی کفالت کرنا۔ عَالَ و عِیلَ الرجُلُ: محتاج ہونا۔ صفت مَعُول۔ عَیَّلَ تَعْییلاً عِیالَہُ: اہل وعیال کی معاش کے لئے کافی ہونا۔ اَعَالَ اِعالَۃً الرجلُ: محتاج ہونا۔ ۔ عِیالَہُ: کی معاش کے لئے کافی ہونا۔ ۔ و أعْوَلَ اِعْوالاً و اَعْیَلَ اِعْیالاً الرجُلُ: بہت اولا دوالا ہونا۔ العائِل: اسم فاعل۔ العائِلۃ: عائِل کا مونث۔ عائلۃ الرجل: بیوی، اولاد، زیر کفالت لوگ اور باپ کی طرف سے اقارب، کہا جاتا ہے: مالہ عالٌ و لا ملٌ: اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ (نہ کنبہ نہ مال ودولت)۔

العَوْل: ہر ایک تکلیف دہ کام، آل اور اولاد کی خوراک عَیِّلُ الرجل جمع عِیال و عَیایِل و عالۃ: گھر والے جن کا خرچ گھر کے سربراہ کے ذمہ ہو۔ (مذکرومونث دونوں پر اطلاق ہوتا ہے)۔

۳۔ عَوَّلَ: چلا کر رونا۔۔۔ علی فلان وبه: سے مدد لینا، پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ کہا جاتا ہے: عَوِّل علیَّ بما شئت: جو چاہو مجھ سے مدد لو۔ عَوَّل علیه مُعَوَّلاً (تعویلاً نہیں کہا جاتا اسم عَوِل ہے۔ کہا جاتا ہے: عَوَّلنا الی فلان فی حاجتنا فوجدناہ نعمَ المُعَوَّل: ہم نے فلاں شخص سے اپنی ضرورت میں پناہ مانگی تو وہ بہترین پناہ گاہ ثابت ہوا۔

اَعْوَلَ: چلا کر رونا۔۔۔ ت القوسُ: کمان کا آواز دینا بجنا۔۔۔ علی فلان: پر بھروسہ کرنا، ناز کرنا۔ اِعْتَوَلَ اِعْتِوالاً: چلا کر رونا۔ العَالَۃ: بارش سے بچنے کے واسطے جھونپڑی۔ چھتری۔ العَوْل: جس سے مدد طلب کی گئی ہو۔ ۔۔ والعَوْلۃ والعَوِیل: چیخ چیخ کر گریہ و زاری کرنا۔ العِوَل: بھروسہ، اعتماد واستمداد، مددگار کہا جاتا ہے۔ فلانٌ عِوَلِی من الناس: فلاں شخص لوگوں میں سے میرا مددگار ہے۔ المِعْوَل جمع مَعَاوِلُ: کدال، پھاوڑا۔ المُعَوَّل: جس سے فریاد کی جائے جس پر بھروسہ کیا جائے۔

۴۔ اَعَالَ و اَعْیَلَ: حریص ہونا صفت مُعْوِل و مُعِیل، اَعْوَلَ الرجُلُ: حریص ہونا۔

۵۔ العَالَۃ (ح): شتر مرغ۔

○ عالَ ۔ عَوْلاً: راہ حق سے ہٹنا۔۔۔ ہ: پر ظلم کرنا، کو تکلیف یا مصیبت پہنچانا؟ پر بھاری ہونا۔ عَالَ صبرُہ وعِیلَ صبرُہُ: بے صبرا ہوجانا۔۔۔ عَوْلا و عِیالَۃً ہ: کی مدد کرنا، کا بوجھ اٹھانا کو سنبھالے رکھنا، کو سہارا دینا، کو زندہ رکھنا۔ کو (خصوصاً کنبہ کے افراد کو) کھلانا، گھر کا بار سر پر اٹھانا، کی غذا کو مہیا کرنا پڑنا، کی مدد کے لئے ذمہ دار ہونا، کو غذا فراہم کرنا، کے گھر کا خرچ چلانا، عَالَ: بہت سے افراد کے کنبہ والا ہونا۔ عَوَّلَ: ماتم کرنا، گریہ زاری کرنا، چیخنا، چلانا (کتے کا) بھونکنا۔۔۔ علی: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، پر فیصلہ دینا، کا پختہ فیصلہ کرلینا، کا/ کے کرنے کا ارادہ ہونا، کا ارادہ کرنا۔ لا به یُعْمَلُ ولا علیه یُعَوَّلُ: کالعدم۔ اَعْوَلَ: ماتم کرنا، گریہ زاری کرنا، چیخنا، (کتے یا بھیڑیے کا) چیخنا، کراہنا، واویلا کرنا۔ اَعَالَ ہ: کی مدد کرنا، کا بوجھ اٹھانا، کو سہارا دینا، کو سنبھالے رکھنا، کو زندہ رکھنا، کو کھلانا پڑنا (خصوصاً کنبہ کے افراد کو)، کے گھر کا خرچ چلانا، کی مدد کا ذمہ دار ہونا، کو غذا فراہم کرنا، کے گھر کا خرچ چلانا۔۔۔ بہت سے افراد کے کنبہ والا ہونا۔ عَوْل: ماتم، گریہ زاری، چیخنا چلانا، (کتے یا بھیڑیے کا) چیخنا، کراہنا، واویلا کرنا، سہارا، امداد، گھر کا خرچ اٹھانا، گھر کا بوجھ اٹھانا، مدد کرنے والا۔ عِوَل: بھروسہ، اعتماد، اعتبار۔ عَیِّل: (کسی کی مدد پر انحصار کرنے والا) کنبہ، گھر بار، اہل خانہ اور شاگرد پیشہ، چھوٹا بچہ، بچہ جمع عِیال و عالَۃ: دست نگر، متوسلین، عِیالٌ علی اور عَالۃ علی: کے خرچ پر رہنے والا، والی، مکمل طور پر (کسی پر) انحصار کرنے والا (پر) بوجھ۔ عَالَۃ: بارش سے چھت کی سی پناہ گاہ۔۔۔ ماتم، گریہ زاری، چیخنا، چلانا واویلا کرنا، (کتے یا بھیڑیے کا) چیخنا چلانا۔ طفیلی، مفت خورہ۔ طفیلی پودا یا کیڑا۔ مِعْوَل جمع مَعاوِل: کدال، کھرپا، جو چیز اندر ہی اندر جڑیں کاٹے اور تباہی و بربادی کا کام دے۔ منفی عنصر۔ معاول ھدامۃ: تخریب کار عناصر۔ معاول الافساد و التقویض: تباہ کار اور تخریب کار عناصر۔ اِعالۃ: غذا و سہارا، امداد، گھر کا خرچ چلانا۔ عائِل: زندہ رکھنے والا، بوجھ اٹھانے والا، سہارا دینے والا، سنبھالے رکھنے والا، گھر کا خرچ چلانے والا، سارے خاندان کے لئے کمانے والا جس کے سر پر گھر بھر کا بار ہو۔ عائلۃ جمع عائلات و عوائل: بیوی، بچے، بال بچے، کنبہ، خاندان، گھر بار، اہل خانہ اور شاگرد پیشہ۔ عائلی: گھریلو، خاندانی۔ مُعَوِّلٌ علی: کا تہیہ کئے ہوئے، کا فیصلہ یا ارادہ کئے ہوئے۔ مُعَوَّل: بھروسہ کی چیز، بھروسہ، اعتماد، انحصار، دارومدار، آسرا، بھروسا، سہارا۔ لیس علیه مُعَوَّل: وہ قابل اعتماد نہیں، کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرسکتا۔ مُعِیل: بمعنی عائل۔

عوم: ۱۔ عَامَ ۔ عَوْمًا فی الماء: پانی میں تیرنا۔ صفت عَائِم۔۔۔ ت السفینۃُ فی الماء: کشتی یا جہاز کا پانی میں چلنا۔۔۔ النجومُ: ستاروں کا چلنا۔ عَوَّمَ السفینۃَ: کشتی کو پانی میں چلانا، آج کل کہا جاتا ہے: عَوَّم السفینۃ الغریقۃ: اس نے ڈوبی ہوئی کشتی کو پانی کی سطح پر لاکر چلایا۔ العامُ: عامۃ کی جمع۔ العامَۃ جمع عام: ترونا لٹھوں کا ٹھاٹھ، جسے پانی میں کشتی کا طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ صحراء میں سوار کا دھڑ جو چلتا نظر آتا ہے۔ العُومۃ جمع عُوَم (ح): پانی میں تیرنے والا کیڑا۔ العُوّام: سوار کا سر جو صحراء میں چلتا دکھائی دے۔ العَوّام: عائم کا اسم مبالغہ، تیز چلنے والا گھوڑا۔ المُسْتَعام: جہاز، کشتی۔

۲۔ عَامَ ۔ عَوْمًا الزِمامُ: لگام ہلنا۔

۳۔ عَوَّمَ: کٹی ہوئی کھیتی کو دستہ دستہ رکھنا۔ العَامَۃ جمع عامٌ: کٹی ہوئی کھیتی کے جمع شدہ گٹھے۔

۴۔ عَوَّمَ الکرمُ: انگور کی بیل کا ایک سال چھوڑ کر پھل لانا۔۔۔ ت النخلۃُ: کھجور کے درخت کا ایک سال پھل لانا اور ایک سال پھل نہ لانا۔ عاوَمَ ت النخلۃُ: کھجور کے درخت کا ایک سال پھل لانا اور ایک سال پھل نہ لانا۔۔۔ فلانٌ فلاناً: کا سے ایک سال کے لئے کرایہ پر معاملہ کرنا۔ أعْوَمَ إعْوامًا: ایک سال کا ہونا کا سال کے شروع میں ہونا۔۔۔ العامُ جمع أعْوام: سال کی متواتر چار فصلیں۔ سال، اس کی تصغیر عُوَیم اور نسبت عامِیّ ہے۔ کہا جاتا ہے: لقیتہ ذات عُوَیم: میں اسے ایک سال ملا۔ اس کو گزشتہ زمانہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

۵۔ العام: دن۔ العامَۃ جمع عام: عمامہ کا پیچ۔ العُومَۃ جمع عُوَم (ح): ایک قسم کا سانپ۔

○ عَامَ ۔ عَوْمًا: تیرنا، عَوَّمَ ہ: (جہاز یا کشتی وغیرہ کو تیرانا، سمندر میں رکھنا، اتارنا۔۔۔ ہ: کو غرقاب کرنا۔ عَوم: تیرنا۔ عام جمع أعْوام: سال۔ عامئذٍ: اُس سال۔ عَوّام: اچھا تیراک، حوض عَوّام: تیرتی

ہوئی یا متحرک گودی (Floating dock)۔ عَوَّامَة جمع عوّامات: پیراک پیپا، تیرونا Buoy یا life buoy۔ ہوا بھری ٹیوب جو ڈوبنے نہیں دیتی، لٹھوں کا ٹھاٹھ، حوض عوّام: تیرتی ہوئی یا متحرک گودی۔ عَائِم: تیرنے والا۔ جِسر عائم: تیرتا ہوا یا متحرک پل۔ کشتیوں کا پل۔ پن روکی پل (Pontoon bridge)۔ رافعہ عائمہ: متحرک کرین Floating crane۔

عون: ا۔ عَانَ ـُ عُوُنًات المرأةُ: عورت کا ادھیڑ عمر ہونا۔ عَوَّنَ تَعْوِينًا المرأةُ: عورت کا ادھیڑ عمر والی ہونا۔ العَوَان جمع عُوْن: ادھیڑ عمر۔ بار بار ہونے والی جنگ۔ الحربُ العَوَان: شدید ترین لڑائی۔ ضرب المثل ہے: العَوَان لا تُعَلَّم الخِمرَة: وہ عورت جس نے یکے بعد دیگرے کئی شادیاں کی ہوں، اس بات کی محتاج نہیں ہوتی کہ کوئی اسے دوپٹا اوڑھنا سکھائے۔ یہ مثال تجربہ کار اور گرم سرد دیکھے ہوئے پر بولی جاتی ہے۔ المُتَعَاوِنَة: بوڑھی، سن رسیدہ عورت

۲۔ عَوَّنَ تَعْوِينًا وعَاوَنَ مُعَاوَنَةً وعِوَانًا ہُ علی الشئ: کی کسی چیز میں مدد کرنا۔ اَعَانَ اِعَانَةً ہُ علی الشئ: کی کسی چیز میں مدد کرنا۔ دعاء میں کہتے ہیں: رَبِّ اَعِنِّی ولا تُعِنْ علَيّ: اے میرے پروردگار میری مدد فرما، اور میرے خلاف مدد نہ کرنا۔ ــ ہُ منه: کو سے چھٹکارا دلانا، کو سے رہائی دینا۔ تَعَاوَنَ واعْتَوَنَ القومُ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اِسْتَعَانَ فلانًا و بفلان: سے مدد مانگنا۔ العَوْن (واحد جمع مذکر ومونث کیلئے) جمع اَعْوَان: مدد، مددگار۔ خادم۔ التَّعَاوُنِيَّة: دکان امداد باہمی Cooprerative یا Co-op۔ المَعَانَة والمَعُونة والمَعُون: مدد۔ المِعْوَان جمع مَعَاوِين: بہتر مددگار، بہت مددگار۔

۳۔ العَانَة جمع عُوْن وعانات (ح): گدھی، گورخر کا ریوڑ، پیڑو۔ العَوَان جمع عُوْن: بارش شدہ زمین۔ العَوَانَة: کھجور کا لمبا درخت، ایک کیڑا جو ریت میں ہوتا ہے۔ (ح): سہ سے مشابہ ایک جانور۔

○ عاوَنَ ہ فی: کی میں یا سے مدد کرنا۔ ــ ہ علی: کی کو حاصل کرنے کیلئے مدد کرنا۔ ــ ہ فی: کی میں حمایت کرنا، کو میں امداد دینا، کی میں اعانت کرنا، کی میں امداد کرنا، اَعَانَ بمعنی عاوَنَ نیز اَعَانَ ہ من: کو سے آزاد کرنا، کی سے گلو خلاصی کرانا، کو سے چھٹکارا دلانا۔ تَعَاوَنَ: ایک دوسرے کی مدد کرنا، امداد کرنا، حمایت کرنا، تعاون کرنا، مل کر کام کرنا، مشترکہ طور پر کام کرنا۔ اِسْتَعَانَ ہ/ب علی: سے کے خلاف مدد کرنے کی درخواست کرنا۔ تقاضا کرنا۔ سے کے خلاف مدد کیلئے رجوع کرنا۔ ــ ہ ھ/ب علی: سے کیخلاف مدد طلب کرنا۔ ــ ہ و ھ/ب: سے رجوع کرنا۔ ــ ہ/ب علی: میں کیلئے کا استعمال کرنا۔ عون: مدد، امداد، آڑے وقت پر یا میں اعانت حمایت، تائید، پشت پناہی۔ جمع اَعْوَان: مددگار، خادم، محافظ دستہ، چھوٹا اہلکار، عدالت کا چپڑاسی (Court usher)۔ اعوان المطافی: فائرمین (فائر بریگیڈ کے) عَوْنَة: جبری مزدوری بیگار (Corvee)۔ عَانَة: موئے زیر ناف۔ عَوَان: ادھیڑ عمر کا۔ ــ بین: کے مابین ثالث یا درمیان کا۔ حرب عَوَان: وقفہ وقفہ کے بعد ہونے اور نہ ختم ہونے والی جنگ۔ مِعْوَان جمع مَعَاوِین: اکثر مدد کرنے والا، قابل اعتماد سہارا، مددگار، مدد کا ذریعہ، جس کے پاس بار بار جایا جائے یا جس سے رجوع کیا جائے، مدد، امداد۔ مَعُونَة: مدد، امداد، آڑے وقت پر یا میں اعانت، حمایت، تائید، پشت پناہی۔ مَدَّیَدَ المَعُونَة ل: کو مدد پہنچانا، کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانا۔ مُعَاوَنَة اعانة: مدد، امداد، اعانت، حمایت پشت پناہی جمع اعانات: (قیمتیں کم کرنے کیلئے امداد۔ چندہ، مہینہ، وظیفہ، (مالی) امداد۔ تَعَاوُن: تعاون۔ شِرْکَةُ التعَاوُن: کوآپریٹو سوسائٹی، انجمن امداد باہمی، کوآپریٹو۔ جمعیة تعاونیه: کوآپریٹو سوسائٹی، کوآپریٹو۔ هیئة تعاونیه: کوآپریٹو کارپوریشن، کوآپریٹو۔ تَعَاوُنِیّة: باہمی سپرٹ، بھائی چارہ کی سپرٹ، تعاون۔ مُعَاوِن: مددگار، مفید، حامی، پختہ سہارا، مددکرنے والا، نائب، معاون Adjutant، ایڈی کانگ (Aid- de- camp)، پولیس آفیسر (نواحی علاقہ کا)۔ مُعَاوِنِیة: پولیس سٹیشن، تھانہ۔ مُعِین جمع مُعِینُون: مددگار، مؤید، حامی، پختہ سہارا، معاون، اسسٹنٹ۔

عوہ: ا۔ عَاہَ ـُ عُوُوْهًا و عِیهَ الزرعُ: کھیتی کا آفت زدہ ہونا۔ ــ الرجُلُ: آفت رسیدہ کھیت یا جانوروں کا مالک ہونا صفت عَائِه وعَاہٍ وعَاہٌ و اَعْوَہُ۔ عَوَّہَ: آفت زدہ کھیت یا جانوروں کا مالک ہونا۔ ــ الرجُلَ: کو آفت پہنچانا۔ اَعَاہَ اِعَاهَةً و اَعْوَہَ اِعْوَاهًا و تَعَوَّہَ تَعَوُّهًا: آفت زدہ کھیت یا جانوروں والا ہونا۔ العَاهَة جمع عَاهَات: آفت۔ اهلُ العَاهات: آفت رسیدہ لوگ۔ المَعْیُوہ والمَعُوہ و المَعِیه من المواشی وغیرها: آفت رسیدہ مویشی وغیرہ۔

۲۔ عَوَّہَ القومُ: کچھ دیر سونے کیلئے سفر میں ٹھہرنا۔ ــ علیهم: کے پاس ٹھہرنا، اقامت کرنا۔

○ عَاهَة جمع عَاهَات: بیماری، کمزوری، درماندگی، ضعف، خستہ حالی، جسمانی نقص، جسمانی معذوری، پت روگ ہمس اور پالا، پودوں کا جھلسنا، پھپھوندی وغیرہ۔ مَعُوہ: پت روگ والا، ہمس پالا کا مارا ہوا، جھلسا ہوا، پھپھوندی لگا ہوا۔ مَعْیُوہ: بمعنی مَعُوہ۔

عوی: ا۔ عَوَی ـِ عُوَاءً وعَیًّا و عَوَّةً وعَوِیَّةً الکلبُ والذئبُ وابنُ آوی: کتے، بھیڑیے اور گیدڑ کا بھونکنا، عوام عَوْعَی کہتے ہیں جو ایک سریانی لفظ ہے، کہا جاتا ہے: فلانٌ مایعوی و ماینبح: فلاں کمزور ہے۔ ــ القومَ الی الفتنه: لوگوں کو فساد کی طرف بلانا۔ ــ عَیًّا وعَوَّی عَن الرجل: کی طرف سے جواب دینا اور غیبت کرنے والے کو جھٹلانا۔ عَاوَی مُعَاوَاةً الکلابَ: بھونک کر کتوں کو بھونکنے پر اکسانا۔ تعَاوَی تَعَاوِیًا القومُ علی فلان: پر ہجوم کرنا۔ اِعْتَوَی اِعْتِوَاءً الکلبُ: کتے کا بھونکنا۔ اِسْتَعْوَی اِسْتِعْوَاءً ہُ: کو بھونکوانا۔ ــ القومَ: سے فریاد کرنا، کو فتنہ پر ابھارنا۔ العَوَّاء (ح): بہت بھونکنے والا کتا۔ العَوَّة (مص): آواز، شور۔ المُعَاوِیة (ح): کتیا (ح): لومڑی کا بچہ۔

۲۔ عَوَی ـِ عَیًّاہُ عن الشئ: کو سے باز رکھنا۔ وعَوَّی القوسَ ونحوَها: کمان وغیرہ کو جھکانا۔ ــ الحبل او الشَعَر: رسی یا بالوں کو موڑنا۔ اِعْتَوَی اِعْتِوَاءً الشئَ: کو موڑنا۔ اِنْعَوَی اِنْعِوَاءً: مڑنا۔

۳۔ العَوَّة والعُوَّة: چوتڑ۔

○ عَوَی ـِ عُوَاءً: (کتے، بھیڑیے گیدڑ) کا بھونکنا، چیں چیں کرنا، چوں چوں کرنا، چینکنا، عَاوَاہَ: پر بھونکنا۔ اِسْتَعْوَی ہ: کو بھونکنے کے لئے کہنا۔ عُوَاء: بھونکنا، کتے بھیڑیے اور گیدڑ کی چیخیں۔

عیب: ا۔ عَابَ ـِ عَیْبًا الشئَ: کو عیب دار کرنا، بنانا، صفت فاعل عائب صفت مفعول: مَعِیب ومَعْیُوب۔ ــ فلانًا: کو عیب کی طرف منسوب کرنا۔ ــ الشئُ: عیب دار ہونا صفت عائب۔ عَیَّبَ وتَعَیَّبَ الرجلَ: کو عیب کی طرف منسوب کرنا۔ ــ الشئَ: کو عیب دار بنانا۔ تَعَایَبَ القوم: ایک دوسرے کا عیب بیان کرنا۔ العَاب: عیب، برائی۔ العَیب (مص) جمع عُیُوب: برائی۔ العَیبة جمع عِیَب وعِیَاب وعِیَبات: ایک بار عیب جوئی کرنا، برائی۔ العَیَّاب و العَیَّابَة والعُیَبَة: بڑا عیب جو۔ المَعَاب والمَعَابَة جمع مَعَایِب: برائی۔ المَعِیب والمَعْیُوب: عیب دار۔

۲۔ العَیْبَة جمع عِیَب وعِیَاب وعِیَبات: چمڑے کی زنبیل۔ کپڑوں کو محفوظ رکھنے کا صندوق۔ ــ عند العلمة:

ٹمٹمو گھوڑے وغیرہ۔ یہ لُعَیبَکا مخفف اور لُعْبَة کا مُصغّر ہے۔ ــــ من الرجل: بھید کی جگہ۔ العِیاب: سینے اور دل۔ المُعَیّب: زنبیل ساز۔

○ عَابَ ـِ عَیْبًا: ناقص ہونا، نامکمل ہونا، غلط ہونا، داغ دار ہونا، بگڑی ہوئی شکل والا ہونا، ناتمام ہونا، ناقص ہونا، غلطیوں سے پر ہونا، خطا کار ہونا، قصوروار ہونا۔ ــ ہ: کو ناقص کرنا، داغدار کرنا، کو بگاڑنا، خراب کرنا، کا ستیاناس کرنا، کی شکل بگاڑنا، کی صورت بگاڑنا۔ ــــ ہ / ہ کی غلطیاں نکالنا، پر اعتراض کرنا، پر نکتہ چینی کرنا، کی عیب جوئی کرنا، ــ ہ: پر غلطی یا برائی کا الزام لگانا۔ ــ ہ / ہ کا موجب رسوائی ہونا، کو ذلیل کرنا، کی ذلت کا موجب ہونا۔ ــــ ہ علی: کو پر ملامت کرنا، کی پر مذمت کرنا، پر کا الزام لگانا، پر کو برا بھلا کہنا، کی وجہ سے کی مذمت کرنا، برائی کرنا، میں نقص نکالنا، عیب لگانا۔ عَیَّب ہ: کو ناقص کرنا، نکما کرنا، کو بگاڑنا، کی صورت بگاڑنا، کی شکل بگاڑنا۔ ــــ ہ / ہ کی غلطیاں نکالنا، پر اعتراض کرنا، پر نکتہ چینی کرنا، کی عیب جوئی کرنا۔ ــ ہ: کو غلطی یا برائی کا الزام دینا، پر غلطی یا برائی کی تہمت لگانا۔ ــــ ہ: کو ملامت کرنا، کی مذمت کرنا، برا بھلا کہنا، کی برائی کرنا، کو جھاڑ جھپاڑ کرنا، کو سرزنش کرنا، کو سرکاری طور پر سرزنش کرنا، کو ملامت کرنا، کو ڈانٹنا، جھڑکنا، کو سخت سست کہنا۔ عَیْب جمع عُیُوب: نقص، خامی، داغ دھبہ، خرابی، عیب، سقم، کمزوری، ادھوراپن، برائی، گناہ، پسندیدہ کمزوری، رسوائی، فضیحت، بے عزتی، ذلت، موجب رسوائی یا شرمناک بات۔ عیب جسمی: جسمانی نقص۔ عیب علیك: شرم شرم، تمہیں شرمندہ ہونا چاہئے۔ عَیْبَة جمع عَیْبَات و عِیَب و عِیَاب: چمڑے کا بیگ، چمڑے کا سوٹ کیس: غلطی، نقص، داغ دھبہ، رسوائی۔ مَعَاب جمع مَعَایب: غلطی، نقص، داغ دھبہ، کمی، سقم، خرابی، عیب، ادھوراپن، برائی، گناہ، ذلت، رسوائی، بے عزتی، فضیحت، مَعِیب: ناقص، نامکمل، غلط، داغ دار، غیر صحت مند، بیمار، شرمناک، رسوائی کا موجب۔ مَعْیُوب بمعنی مَعِیب۔ مُعَیِّب: عیب جوئی کرنے والا، معترض، نکتہ چین، عیب جو، حرف گیر۔

عیث ۱۔ عَاثَ ـِ عَیْثًا و عُیُوثًا و عَیَثَانًا الشیٔ کو خراب کرنا، کہا جاتا ہے: عَاثَ الذئبُ فی الغنم وعاث فی الارض فسادا: بھیڑیے نے بکریوں میں تباہی مچادی، اس نے زمین میں غارت گری کی۔ ــــ فی ماله: مال میں فضول خرچی کرنا اور خرچ کرنے میں جلدی کرنا صفت مذکر: عَیْثَان صفت مونث: عَیْثَی ــــ العائث (ح): شیر۔ العَیْثَةُ: ایک بار کی فساد انگیزی۔ العَیُوث والعَیَّاث: بہت فساد مچانے والا۔ (ح): شیر۔

۲۔ عَیَّثَ: اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹولنا، کہا جاتا ہے: عَیَّث یفعل کذا: وہ ایسا کرنے لگا۔

۳۔ تَعَیَّثَت الابلُ: اونٹوں کا سیرابی سے کم پانی پینا۔

۴۔ العَیْثَة: نرم زمین۔

○ عَاثَ ـِ عَیْثًا فی: میں آفت پیدا کرنا، تباہی و بربادی کا باعث بننا، لوٹ مار اور غارتگری مچانا، طوفان بپا کرنا، عاث فسادا فی: میں لوٹ مار مچانا، تباہی و بربادی کرنا۔ ــــ فی ماله: اپنا مال ضائع کرنا، اپنی دولت اڑانا، برباد کرنا۔ عَیَّثَ: اندھیرے میں ٹٹولنا، ٹامک ٹوئیے مارنا۔

عیج: عَاجَ ـِ عَیْجًا بالشیٔ: کی پرواہ کرنا کہا جاتا ہے: لا اعیج بکلامه: میں اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ ما عِجْتُ بالشیٔ: میں اس سے راضی نہیں ہوا۔ شربتُ الدواءَ فما عِجْتُ به: میں نے دوا پی مگر مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔

○ عَیَّدَ: جشن یا تہوار منانا۔ ــ علی: کو مبارکباد دینا، یا کہنا (کسی جشن، تہوار یا عید پر)، سے خوش وخرم (عید، جشن، تہوار) کی تمنا کا اظہار کرنا۔ عَایَدَ علی: (عید، جشن، تہوار کے موقع پر) کو مبارکباد دینا، سے خوش وخرم عید، جشن، تہوار) کی تمنا کا اظہار کرنا۔ عِید جمع اَعیاد: عید، جشن، تہوار، خوشی، مسرت، چھٹی، تعطیل۔ عید الرسُل: سینٹ پیٹر اور پال کا دن۔ عیدُ الصعود: رفع مسیح کا دن۔ العید الصغیر: چھوٹی عید۔ عید الفطر: عید الفطر، چھوٹی عید۔ عید الاضحی: عید قربانی، العید الکبیر: عید الاضحیٰ، بڑی عید۔ عیدُ الکِسْوَة: شوال کے مہینہ میں قاہرہ سے مکہ معظمہ میں کِسْوَة (غلاف کعبہ) کی رسمی منتقلی کے موقع پر منایا جانے والا تہوار۔ عیدیة: تہوار کے موقع پر دیا جانے والا تحفہ، سال نو کا تحفہ۔ مُعَایَدَة: تہوار منانا، مبارکبادوں کا تبادلہ، جمع معایدات: عید، تہوار جشن کے دنوں میں مبارکبادی کے لئے آنا۔

عیر ۱۔ عَارَ ـِ عَیْرًا: حیرانی کے ساتھ آنا جانا۔ الفرسُ: گھوڑے کا ناک کی سیدھ میں بھاگنا کہ کوئی چیز اسے نہ پھیر سکے۔ اسم العِیَار۔ ــ ت القصیدة: قصیدہ کا مشہور ہونا۔ أعَارَ إعارةً الفرسَ: کو چرنے کے لئے چھوڑ دینا۔ العَائِر (فا): حیران، چکر لگانیوالا۔ سهمٌ عائِرٌ: وہ تیر جس کے چلانے والا کا پتہ نہ ہو۔ قَصِیدَةٌ عَائِرَة: مشہور قصیدہ۔ شاة عائرة: بکری جو دوگلوں کے درمیان پریشان پھرے کہ کدھر جائے۔ العَیْر (مص) جمع اَعْیَار و عُیُور و عُیُورَة و عِیَارَات مونث عَیْرَة (ح): گدھا، گورخر، گورخر کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ العِیْر جمع عِیَرَات و عِیْرَات: قبیلہ حمیر کا قافلہ، پھر تمام قافلوں پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ العِیَار: عَیْر کی جمع۔ العَیَّار: بہت پھرنے والا، آوارہ گرد۔ فرسٌ عَیَّار: بدک کر بھاگ جانے والا گھوڑا۔ المُعَار من الخیل: گھوڑا جو سوار کے ساتھ راستہ سے ہٹ جائے۔ المُسْتَعِیْر: جو گدھے کے مشابہ ہو۔

۲۔ عَارَ ـِ عَیْرًا فلانًا: پر عیب لگانا۔ عَیَّر فلانا: کی عار کی طرف نسبت کرنا، کے کام کی برائی بیان کرنا۔ کہا جاتا ہے: عَیَّرہ کذا وعَیَّره بکذا: کو عار دلانا۔ تَعَایَرَ القوم: ایک دوسرے کا عیب بیان کرنا، ایک دوسرے کو شرم دلانا۔ العار جمع أعْیَار: عیب، ہر وہ قول اور فعل جس سے آدمی کو شرم آئے۔ المَعَایِر: عیوب

۳۔ عَیَّرَ الماءُ: پانی کا کائی والا ہونا۔

۴۔ عَایَرَ مُعَایَرَةً وعِیَارًا فلانًا: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ ــــ المِکْیَالَ او المیزَانَ: ناپ تول کو جانچنا تاکہ معلوم ہو کہ وہ صحیح ہے۔ العِیَار جمع عِیَارَات: روپے، اوزان اور ناپنے کی چیزوں کا قانونی پیمانہ، معیار۔ عِیَارُ الشیٔ: پیمانہ۔ عِیار الدراهم او الدنانیر: درہموں اور دیناروں کا ٹھپہ۔ المِعْیَار جمع مَعَایِیر: کسوٹی

۵۔ أعَارَ إعَارَةً الفرسَ: گھوڑے کو موٹا کرنا۔ المُسْتَعِیر: موٹا گھوڑا۔

۶۔ العَیْر: ہر ابھری چیز، آنکھ کی پتلی، پلک، کھونٹی، ہودج کے آگے لگی ہوئی لکڑی، پہاڑ، سردار، بادشاہ، ڈھول۔ عَیْرُ القدم: قدم کے بیچ کا ابھرا ہوا حصہ۔ عیرُ النصل: نیزہ یا تیر کے پھل کے درمیان کا ابھرا ہوا حصہ۔ عَیْرُ الورقة: پتے کی درمیانی لکیر۔

○ عَارَ ـــ عَیْرًا: ادھر ادھر، مارا مارا پھرنا، بھٹکنا، بھٹکتے پھرنا، بچھڑ جانا، منہ اٹھائے پھرنا۔ عَیَّرَ ہ / ہ / ب / علی: (پر) کی ملامت کرنا، جھاڑ جھپاڑ کرنا، کو ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھپاڑ کرنا، کو برا بھلا کہنا، عیب لگانا، ــ ہ: سے بدسلوکی کرنا، بری طرح پیش آنا، کو گالی دینا، سے سخت کلامی کرنا، کے خلاف دشنام طرازی کرنا، کی بے عزتی کرنا، توہین، ہتک یا اہانت کرنا، کو ذلیل کرنا کو کوسنے دینا، برا بھلا کہنا۔ عَایَرَ ہ (پیمانے، باٹ) جانچنا، کا اندازہ کرنا، کی جانچ کرنا، کی درستی جانچنا۔ تَعَایَرَ: ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔ عار جمع اَعْیَار علی: پر بے عزتی، رسوائی، فضیحت، عار، ذلت، موجب

رسوائی، شرمناک بات۔ عَیْر جمع اَعْیَار: جنگلی گدھا۔ عِیر جمع عِیرات: قافلہ، کاروان۔ لا فی العیر ولا فی النفیر: نہ یہاں نہ وہاں، کسی طرح نہیں، غیر اہم۔ عِیَار جمع عِیَارات: پیمانہ، مقدار، ناپ، پیمائش، معیار، (ناپ تول کا) پیمانہ: (سونے چاندی کی اشیاء کا) کھرا پن۔ بندوق وغیرہ کی اندرونی قطر کی نالی جمع عیارات و اَعْیِرَة نیز عیار ناری: فائر۔ عَیَّار جمع عَیَّارُون: آوارہ گرد، کوچہ گرد، ہرزہ گرد، بدذات، بے اصول شخص، پکا آوارہ گرد، مفت خورہ، بے گھر، بے در، خانہ بدوش، عَیَّار جمع عیارات: کرین۔ مِعْیار: ناپنا، مساحت، جانچنا، اندازہ کرنا، پیمائش، مقدار ناپ، درجہ، جمع مَعَایِیر: معیاری پیمانہ، پیمائش اور وزن کا پیمانہ، معیار۔ مِعْیَارُ العیش: معیار زندگی۔ مِعْیَارُ الذھب: سونے کا معیار۔ مَعَایِر (جمع) غلطیاں، برائیاں، گناہ، بدنامیاں، رسوائیاں، نفرتیں۔ مُعَایَرَةُ المَوَازِین والمکاییل: باٹوں اور پیمانوں کی تصدیق۔

عیس: اَعْیَسَ اِعْیَاسًا الزرعُ: کھیتی کا خشک ہونا، تَعَیَّسَت الابلُ: اونٹوں کا بھورے رنگ والا ہونا۔ العِیس واحد اَعْیَس (مذکر) اور عَیْسَاء (مونث): بھورے رنگ کے اونٹ، عمدہ قسم کے اونٹ۔ العَیَس و العِیسَة: بھورا رنگ۔ العَیْسَاء (ح): مادہ ٹڈی۔ عِیْسَی: عبرانی لفظ۔ مسیح علیہ السلام کا نام۔ نسبت کے لئے عِیْسَوِی اور عِیسِیّ آتا ہے۔

○ عَیْسلان: سُنبل۔

عیش: عَاشَ ـِ عَیْشًا و عِیْشَةً ومَعَاشًا ومَعِیشًا و مَعِیْشَةً و عَیْشُوشَةً: زندہ رہنا۔ عَیَّشَ واَعَاشَ اِعَاشَةً ہٗ: کو زندہ رکھنا۔ عَایَشَ ہٗ: کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تَعَیَّشَ: اسبابِ زندگی کے لئے کوشش کرنا۔ تَعَایَشَ القومُ بالالفة والموَدّة: محبت اور پیار سے ایک ساتھ زندگی گزارنا۔ العَائِش (فا): کہا جاتا ہے۔ ھو رجُلٌ عائِش: اس کی حالت اچھی ہے۔ العَیْش (مص): زندگی، کھانا، روٹی۔ ـــ والـمِعِیشَة: زندگی کی حالت، کہا جاتا ہے: عیشَةٌ راضِیَةٌ: پسندیدہ حالت زندگی۔ العَیَّاش: روٹی بیچنے والا، کھانا فروخت کرنیوالا۔ عائِش کا مبالغہ۔ المَعَاش جمع مَعَایِش: کھانے پینے کی اشیاء جن سے گزران ہو سکے۔ ذریعہ زندگی، زندگی کی تلاش کا وقت یا جگہ۔ المَعِیْشَة جمع مَعَایِش: کھانے پینے کی اشیاء جن سے گزران ہو سکے۔ ذریعہ زندگی۔ المُتَعَیِّش (فا): جس کے پاس گزر بسر کیلئے کچھ ہو۔

○ عَاشَ المَلِكُ بِالیَعِش المَلِكُ: بادشاہ زندہ باد۔ عَاشَ حَیَاتَہٗ: اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا، اپنی زندگی سے اچھی طرح فائدہ اٹھانا۔ تَعَیَّشَ ب: سے بڑی مشکل سے گزارہ کرنا، سے روزی کمانا، سے آمدن کے اندر گزر بسر کرنا۔ ـــ مِن: پر زندگی بسر کرنا، پر یا سے زندہ رہنا۔ عَیْش: زندگی، زندہ رہنے کا انداز، طرز زندگی، معاش زندگی، ذریعہ آمدنی، ذریعہ معاش، وجود، بقا، ہستی، روٹی۔ مُسْتَوَی العیش: معیار زندگی۔ عیش غُراب: سانپ کی چھتریاں، ککرمتا۔ عِیْشَة: زندگی کی قسم، طرز زندگی، زندگی۔ مَعَاش: زندگی، طرز زندگی، زندگی کا سٹائل۔ روزی، ذریعہ معاش، آمدنی۔ جمع معاشات: ریٹائرمنٹ کی تنخواہ، پنشن، کسی عوامی بہبود کے فنڈ سے ملنے والے منافع یا الاؤنس۔ ذو المَعَاش: پنشنر۔ ارباب المعاشات: پنشنر لوگ۔ اُحِیْلَ الی (علی) المَعَاش: ریٹائر ہونا، پنشنر ہو جانا، پیرانہ سالی کے باعث سبکدوش ہو کر وظیفہ پانا۔ مَعِیشة جمع مَعَایِش: زندگی، طرز زندگی، رہنے کا طریقہ، روزی، اہل خانہ۔ مَعِیْشَةُ الرِیف: دیہاتی زندگی، دیہات کی زندگی۔ مَعِیشی: طرز زندگی سے متعلق الـحـالة الـمَعِیشیة: معیار زندگی۔ مَعَایَشَة: مل جل کر رہنا، پہلو بہ پہلو زندگی۔ اِعاشة: غذائیت، خوراک، غذاء۔ بطاقَةُ الاعاشة: راشن کارڈ۔ تعَایُش: مل جل کر رہنا، عائِش: زندہ، امیر، خوشحال۔

عیص: العِیص جمع اَعْیَاص و عِیصان: گنجان درختوں کا جنگل، وہ جگہ جہاں اچھے درخت اگتے ہوں۔ اصل، کہا جاتا ہے: ھو من عِیصٍ کریمٍ: وہ شریف الاصل ہے۔ المَعِیص: درختوں کے اگنے کی جگہ۔

عیط: ۱۔ عَاطَ ـِ عَیَطَاتِ العُنُقُ: گردن کا لمبا ہونا۔ عَیِطَ ـَ عَیَطًا الرجُلُ: لمبی گردن والا ہونا۔ صفت اَعْیَط: لمبی گردن والا۔ عَیْطَاء لمبی گردن والی، دونوں کی جمع عِیط۔ تعَیَّطَت العُنُقُ: گردن کا لمبا ہونا۔ ھَضْبَةٌ عَیْطاء: اونچا ٹیلہ، اونچی پہاڑی۔

۲۔ عَیَّطَ تعْیِیطًا: چیخنا، چلانا، عام لوگ کہتے ہیں: عَیَّط لَہٗ: اس نے اسے آواز دی۔ تَعَیَّطَ: غضبناک ہونا۔ القومُ: لوگوں کا چیخنا، شور مچانا۔ العَائِط (فا): جمع عُوْط وعِیط وعُیَّط وعُوْطَط وعِیطَات: چیخنے والا، کہا جاتا ہے۔ عَائِط عِیطٍ و عُوطٍ و عُوطَطٍ: بہت چیخنے والا۔ العِیاط: چیخ پکار، شور وغل، عام لوگ کہتے ہیں: عَیْطَة

۳۔ تَعَیَّطَ العُود لکڑی سے پانی جیسی چیز کا نکل کر گوند بننا۔

○ عَیَّطَ عَلی: کو چیخ کر بلانا، کو پکارنا، آواز دینا، اونچی آواز سے بلانا۔ عَیَّط: رونا، چیخنا، چلانا۔ عِیَاط: چیخ پکار، شور غوغا دہائی۔

عیف: ۱۔ عَافَ ـِ عَیْفًا و عِیَافًا و عَیَفَانًا الطعامَ وغیرَہٗ: کھانے وغیرہ کو کراہت کی بنا پر چھوڑ دینا۔ اَعَافَ اِعَافَةً القومُ: پانی ناپسند کر کے نہ پینے والے جانوروں کا مالک ہونا۔ اِعْتَافَ اِعْتِیَافًا الطعَام وغیرَہ: کھانے وغیرہ کو کراہت کی بنا پر ترک کر دینا۔ العَائِف (فا): چیز کو ناپسند کرنے اور اس کے گندہ پن کی وجہ سے گھن کرنے والا۔ العَیْفَةَ: ایک بار مکروہ جاننا۔ العِیْفَةَ: کراہت کی نوعیت۔ العَیُفَان والعَیُوف: بمعنی عَائِف العَیِّفان: نفرت کرنے کا عادی۔ المَعِیف: مکروہ ناپسندیدہ۔

۲۔ عَافَ ـِ عِیَافَةً الطیرَ: پرندے اڑا کر اچھی بری فال لینا۔ العَائِف (فا): پرندوں وغیرہ سے شگون لینے والا۔ المُتَعَیِّف: شگون لینے والا۔ فال نکالنے والا۔ ابتکرتُ ابتکارَ المُتعَیِّف: صبح سویرے آنا۔

۳۔ عَافَ ـــ عَیَفَاتِ الطیرُ: پرندوں کا منڈلانا اسم عَیْفَة۔ عَیْفَةُ الطائر: پرندوں کا کسی چیز پر منڈلانا۔ نسورٌ عَوَائِف: مقتولوں پر منڈلانے والے گدھ۔

۴۔ اِعْتَافَ اِعْتِیَافًا: سفر کیلئے توشہ لینا۔

۵۔ العِیفَة: عمدہ مال۔

○ عَافَ ـِ عَیْفًا و عِیافًا وعَیَفَانًا ہ: سے سخت نفرت کرنا، سے متنفر یا بیزار ہونا۔ سے کراہت محسوس کرنا۔ عَیْف: کراہت، نفرت، خوف، دہشت، بیزاری۔ عَیَّاف: پرندوں کی پرواز سے فال نکالنے والا۔ عَیُوف: مغرور، متکبر، حقارت آمیز۔ عَیَفان: نفرت تنفر کراہت، خوف دہشت، بیزاری۔

عیق: عَاقَ ـِ عَیْقًا بمعنی عاق یعوق عوقًا: (باب عوق میں دیکھئے)۔

عیك: عَاكَ ـِ عَیَكَانًا مونڈھے کو ہلاتے ہوئے چلنا۔

عیل: ۱۔ عَالَ ـِ عَیْلاً و مَعِیْلاً ہُ الشیُّ: چیز کا کے قبضہ سے نکل جانا اور دشوار ہونا۔ ـ عَیْلاً و عَیْلَةً و عُیُولاً و مَعِیلاً: محتاج ہونا صفت عائِل م عائلة: اسم عَیْلَة۔ ـ الرجُلُ: کثیر العیال ہونا، بہت اولاد والا ہونا۔ عَیَّلَ: کثیر الاولاد ہونا۔ ـــ عِیالَہٗ: اپنی اولاد کی معاش کی طرف سے کافی ہونا۔ ـــ القومَ: کو عیال بنا لینا یا نظر انداز کر دینا۔ فرسَہٗ: اپنے گھوڑے کو نظر انداز کرنا، بیکار چھوڑ دینا۔ اَعْیَلَ اِعْیَالاً: کثیر العیال ہونا صفت مُعْیِل مونث مُعْیِلَة، العائل (فا) جمع عَالَة و عُیَّل وعِیلٌ و عَیْلَی: محتاج۔ العَالَة: فاقہ،

کہاجاتا ہے۔ ھو عَالَةٌ علیھم: وہ لوگ، اس کا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہیں۔ وہ ان پر بوجھ ہے۔ العِیال (ع و ل دیکھیں)۔ العِیالَة والمَعَالة للبرذون وغیرہ: چارہ (برذون ترکی گھوڑے۔ ٹٹو) عَیْلَة الرجُلِ وعَائِلَتُهُ: گھر کے لوگ جن کا نان نفقہ اس پر واجب ہو۔ کہاجاتا ہے: اَمْسَیتُ اخاعَیْلَةٍ: میں مفلس ہوگیا۔ طالت عَیْلَتی اِیّاكَ: کفالت کی مدت لمبی ہوگئی۔ عَیِّلُ الرجُل جمع عَیَائِل: گھر کے افراد۔ کہاجاتا ہے عنده کذا وکذا عَیِّلاً: اس کے گھر کے افراد اتنے ہیں۔ رجُلٌ مُعَیَّلٌ: اہل وعیال والا۔

۲۔ عَالَ ـِ عَیْلاً و تَعِیلاً فی مشیه: متکبرانہ چال چلنا، ناز وانداز سے چلنا۔ تعَیَّلَ فی المشی: ناز وانداز سے چلنا، متکبرانہ انداز سے چلنا۔ العَیَّال: ناز سے چلنے والا۔

۳۔ العَیْلان (ح): نر بجو۔

○ عَالَ ـِ عَیْلَةً: غریب ہونا یا ہوجانا، مفلس ہوجانا۔ عَیَّلَ واَعْیَلَ: بڑے کنبے والا ہونا۔ عَیِّل و عِیَال وعَالَة و عَائلة: کے لئے دیکھیں عول۔ عائِل: غریب، ضرورت مند، مفلس، قلاش محتاج۔ مُعِیل ومُعَیَّل: بڑے کنبے والا، بڑے کنبے کے لئے کمانے والا۔

عیم: ۱۔ عَامَ ـَ عَیْمًا و عَیْمَةً: دودھ کا خواہشمند ہونا۔ اَعَامَ اِعَامَةً ہُ اللّٰهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بغیر دودھ کے چھوڑنا۔ الرجُلُ: بغیر دودھ کے رہنا۔ ـ القومُ: کے پاس دودھ کی قلت ہونا۔ العَیْمَةُ: دودھ کی سخت خواہش۔ العَیمان م عَیْمَی جمع عَیَامَی: دودھ کا خواہشمند۔

۲۔ اِعْتَامَ اِعْتِیَامًا: عمدہ مال چھانٹ لینا۔ العِیمَة: عمدہ مال

۳۔ العَیَام: دن، کہاجاتا ہے: سرنا العَیَامَ کلَّهُ: ہم سارا دن چلتے رہے۔

عین: ۱۔ عَانَ ـِ عَیْنًا الرجُلَ: کو نظر لگانا۔ عَائِن: نظر لگانے والا۔ مَعِین و مَعْیُون: جس کو نظر لگی ہو۔ عِیَانَةً القومَ: لوگوں کے پاس خبر لیکر آنا۔ ـــ علی القومِ: کا جاسوس بننا۔ عَیِنَ ـَ عَیَنًا و عِینَةً: آنکھ کا خوب چوڑی پتلی والا ہونا۔ عَیَّنَ تَعْیِینًا فلانًا: کی برائیوں کو اس کے منہ پر کہنا۔ ـــ علی فلان: کے خلاف جاسوسی کرنا۔ ـــ اللؤلؤةَ: موتی پرونا۔ ـــ القربةَ: مشک میں پانی ڈالنا تاکہ سلائی کے سوراخ بند ہوجائیں۔ العینَ: حرف عین لکھنا۔ عَایَنَ عِیَانًا ومُعَایَنَةً ہُ: کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ کا معائنہ کرنا، کہاجاتا ہے: ما اَعْیَنَهُ: وہ کتنا بدنظر ہے۔ تَعَیَّنَ ہُ: کو نظر بدلگانا۔ ـــ الشیءَ کو دیکھنا۔ ـــ الرجُلَ: کو یقینی طور پر دیکھنا۔ ـ الجلدُ: کھال کا آبلہ دار ہونا۔ السِقاءُ: کہنگی کی وجہ سے مشک میں چھوٹے چھوٹے دائروں کا پڑا ہونا۔ اِعْتَانَ الشیءَ: چیز کا عمدہ حصہ لے لینا۔ ـــ القومَ: لوگوں کے پاس خبر لیکر آنا۔ ـ لفلان منزلاً: کے گھر جانا یا گھر کی سیاحت کرنا۔ کا گھر تلاش کرنا۔ العائِن (فا): کہاجاتا ہے: مابالدار عائِنٌ: گھر میں کوئی نہیں۔ العَائِنَة: عائن کا مونث: کہاجاتا ہے لقیته اول عائنةٍ او ادنی عائنةٍ: میں نے سب سے پہلے اس سے ملاقات کی۔ عائِنَةُ بنی فلان: مال اور محافظین مال۔ العَیْنُ (مص) جمع اَعْیُن وعُیُون وعِیُون و اَعْیَان و جج اَعْیُنَات وتصغیر عین عُیَیْنه لفظ مونث ہے۔ (ع ۱) آنکھ، آنکھ کا ڈھیلا، پلک وغیرہ سمیت سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ حس نظر، (کہاجاتا ہے ھو قویُّ العین: اس کی حس نظر قوی ہے۔) بدنظری (کہاجاتا ہے: به عَیْنٌ: وہ بد نظر ہے۔) انسان، (اس سے ہے: مابالدار عَیْنٌ: گھر میں کوئی نہیں) اہل شہر، اہل خانہ، نفیس، عزت جھنڈا، کھال پر چھوٹے چھوٹے حلقے، گروہ، چیز کا عمدہ حصہ، سردار، شریف قوم، فوج کا سربراہ، گارڈ، سنتری، جاسوس، لشکر کا ہراول دستہ، آفتاب، یا شعاع آفتاب، نظر، دیکھنے کی جگہ، کہاجاتا ہے: فلانٌ عین علی فلان: فلاں فلاں کے اوپر نگہبان ہے۔ ھو عبد عین او صدیقُ عینٍ: وہ دکھاوے کا خادم یا دوست ہے۔ لقیتُه عینَ عُنَّةً: میں اس سے اس طرح ملا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ لقیته اوّلَ عینٍ: میں سب سے پہلے اسے ملا۔ لاتطلب اَثرًا بعدعین: معائنہ کے بعد اثر کو مت طلب کرو، یہ ایسے موقع کے لئے ضرب المثل جب کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے اور چھوڑ دے اور گم ہوجانے پر اس کے اثر کے درپے ہوجائے۔ صار خبرًا بعد عینٍ: معائنہ کے بعد وہ خبر بن گیا۔ انت علی عینی: تم میری سرآنکھوں پر ہو۔ یعنی تم میرے نزدیک معزز ومحترم ہو اور ساتھ ہی میری حفاظت میں بھی۔ ھاھو عَرَضَ عَیْنٍ: وہ قریب ہے۔ فعلَهُ علی عینٍ و علی عینین و عَمْدَ عینٍ وعَمْدَ عینین و عمدًا علی عینٍ: اس نے وہ کام سنجیدگی اور یقین کے ساتھ کیا۔ فَقَأَ عینَه: اس نے اسے طمانچہ مارا اور برا بھلا کہا۔ نَعِمَ اللّٰهُ بِكَ عَیْنًا: اللہ تم سے آنکھ ٹھنڈی رکھے۔ عینُ الابرةِ: سوئی کا ناکہ۔ اَعْیَانُ القوم: قوم کے شریف اور اعلیٰ لوگ۔ العِین (ح): نیل گائے۔ العَیْنُ (مص): شہر کے لوگ، اہل شہر، جماعت، العِیَان (مص): جمع عُیُن واَعْیِنَة: شخص، کہاجاتا ہے لقیه او راه عِیَانًا: اس نے اس سے ملاقات کی یا اسے دیکھا اور اس کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں۔ العِیَانیّ من الشهود: چشم دید گواہ۔ العِینَة جمع عِیَن: عمدہ مال۔ ـــ من النعجه: بکری کے آنکھ کا حلقہ۔ عِینَةُ الخیل: عمدہ گھوڑے کہاجاتا ہے۔ ثوبُ عِیْنَةٍ: عمدہ نظر آنے والا کپڑا۔ العَینِیَّة: عین سے متعلق۔ عین کی طرف منسوب۔ عُیَیْنَةُ الشیء (ت): کسی چیز کا نمونہ، سیمپل۔ العُیَیْنَة: عین کی تصغیر۔ عام لوگ کہتے ہیں: عُوَینَه: جسکی جمع عُوَینات ہے۔ العُوَینات (عند العامة): عینک، جسے آج کل نظارات کہاجاتا ہے۔ العَیُون جمع عِین وعُیُن: بہت نظر لگانے والا۔ بدنظر۔ الأعْیَن م عَیناء: جمع عِین: جس کی آنکھ کی پتلی بڑی اور چوڑی ہو۔ (ح) جنگلی بیل۔ العَیْنَاء: خوبصورت آنکھوں والی عورت۔ خوبصورت بات، کہاجاتا ہے: ارضٌ عیناء: سرسبز زمین۔ العَیَّان والمعیان: بہت نظر لگانے والا۔ المُعَانیَة (مص): برادری، المَعَان: منزل: کہتے ہیں: ھم منك بمعان: وہ لوگ ایسے مقام پر ہیں کہ تم انہیں دیکھ سکتے ہو۔ المَعِین والمَعْیُون: ظاہر جسے آنکھ زمین پر چلتا دیکھتی ہو۔ چشمہ المُعتان: پیشوائے قوم۔ المُعَیَّن (ح): بیل، سانڈ، نرگاؤ (آنکھیں بڑی ہونے کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا ہے) وہ کپڑا جس کے نقش ونگار میں وحشی جانوروں کی آنکھوں کے مثل خانے ہوں۔ علم ہندسہ کی اصطلاح میں ایسی مسطح شکل کا نام جس کے چاروں ضلعے مستقیم مساوی ہوں۔ لیکن زاویے قائم نہ ہوں۔ معین شکل بنانا۔ کہا جاتا ہے نیةٌ مُعَیَّنَةٌ و مُعَیِّنَة: واضح اور کھلا ہوا ارادہ، ظاہر نیت۔

۲۔ عَانَ ـِ عَیْنًا وعَیَانًا وعَیَنَانًا الماءُ او الدمعُ: پانی یا آنسو کا بہنا۔ ـ ت البئرُ: کنویں کا بہت پانی والا ہونا، کہاجاتا ہے۔ حفرتُ حتی عِنْتُ: میں نے کھودا حتیٰ کہ پانی کے چشمے تک پہنچ گیا۔ حفرتُ حتی اَعْیَنْتُ: میں نے کھودا حتیٰ کہ پانی کے چشمے تک پہنچ گیا۔ العَائِن (فا): کہاجاتا ہے: شربَ من عائِنٍ: اس نے بہتے پانی سے پیا۔ العَیْن جمع اَعْیُن وعُیُون: نالی کے پانی کے گرنے کا مقام، کنویں کے پانی پھوٹنے کی جگہ۔ پانی کا چشمہ۔ عینٌ مَعْیُونة: بہت پانی والا چشمہ۔

۳۔ عَیَّنَ تَعْیِینًا التاجِرُ: تاجر کا سامان کو ایک مدت کے وعدے پر فروخت کرنا اور پھر پہلی قیمت سے کم میں

دوبارہ خرید کرلینا۔ ـــالرجُلَ: انتخاب سے لینا یا دینا۔ اِعْتَـان الشئَ: کوادھار خریدنا۔ العَین جمع اَعْیُن وعُیُـون وعِیُـون واَعْیَـان: سود، مال، تیار مال۔ دینار، سونے کا سکہ، موجودہ نقدی، ترازو کا جھکاؤ۔ ـــ جمع اَعیان: ہر موجودہ اور حاضر شئے، کہا جاتا ہے: بعتهُ عَینًا بعینٍ: میں نے حاضر مال کو حاضر مال کے بدلے بیچ دیا۔ بَیع العِینَة: ایک وقت تک اپنی قیمت پر چیز فروخت کرنا اور قیمت کا انتظار کرنا یعنی ادھار فروخت۔

۴۔ عَیَّنَ تَعْیِینًا الشئَ: کو خاص کرنا، علیحدہ کرنا۔ عَیَّنَهُ فی منصب کذا: کو کسی منصب پر مقرر کرنا۔ عَیَّنَ علـی السـارق: ملزموں میں سے چور کی شناخت کرنا۔ ـــ الشئ لفلان: چیز کو کسی کے لئے مخصوص کرنا، کہا جاتا ہے: ماعَیَّنَ لی بشئ وما عَیَّنَنی شیئا: اس نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تعَیَّنَ الرجُل: کسی چیز کے حصول کیلئے توقف کرنا ـ علیه الشئُ: مقررہ شئ کا کے لئے لازم ہونا ـ فی هذا المنصب: وہ اس عہدہ یا منصب پر لگایا گیا ہے۔ العَین جمع اَعْیُن وعُیُـون وعِیُون واَعْیَـان: خالص، واضح کہا جاتا ہے: ذکر الحقَ بعینه: اس نے واضح اور خالص طور پر حق بیان کیا۔ ـــ جمع اَعیان: وہی چیز کہا جاتا ہے: هو هو عینا او بعینه: وہ وہی ہے، وہ بعینہ وہی ہے یا ہو بہو وہی ہے۔

۵۔ عَیَّنَ تَعْیِینًا الشجرُ: درختوں کا سرسبز ہونا، شگوفہ دار ہونا۔

۶۔ عَیَّنَ تَعْیِینًا الحرب بیننا: کے مابین لڑائی کرانا۔ عِینَةُ الحرب جمع عِیَن: مادۂ جنگ۔

۷۔ اَعَانَ اِعَانَةً (دیکھئے مادہ (عون)):

۸۔ العَیْن: کنارا، طرف، پہلو، علاقہ۔ العِیان جمع عُیُن واَعْیِنَة: ہل کا پھل۔

عَیَّن ۔۔ کی تخصیص کرنا، تعین کرنا، کا خاص کر نام لینا، کی تفصیلات دینا، کو ایک ایک کر کے لکھنا۔ تعین کرنا، کی صراحت کرنا، کو نام زد کرنا، کو مقرر کرنا، سونپنا، ٹھہرانا، کا جدول بنانا، کا گوشوارہ تیار کرنا، کو نشان لگانا، کو لکھ لینا، ممیز کرنا، واضح کرنا، کی حدود معین کرنا، کی شرط کرنا۔ ـ ہ ہ / فی کو بطور یا عہدہ پر نامزد کرنا، مقرر کرنا، معین کرنا۔ ـــ ہ ہ کو کے لئے الگ کرنا، علیحدہ کرنا، منتخب کرنا، ـــ ہ ل کو کوئی چیز الاٹ کرنا، کو کوئی حصہ دینا، کو کیلئے مخصوص کرنا، مختص کرنا۔ ـــ علی پر آنکھیں جمانا یا گاڑنا، پر تلا ہوا ہونا۔ ـــ عَیَّن سببًا: وجہ بیان کرنا۔ عَـایَنَ ہ / ہ کو دیکھنا، بچشم خود دیکھنا، کا جائزہ لینا، کا معائنہ کرنا۔ ـ ہ کا سروے کرنا۔ تعَیَّنَ ہ / ہ کو دیکھنا۔ تـعَیَّـنَ مخصوص ہونا، مختص ہونا، مقرر ہونا، نامزد ہونا۔ ـــ علی: پر خصوصی طور پر عائد ہونا، کے لئے لازمی، پر لازم، واجب یا فرض ہونا، کے لئے ضروری ہونا، کا فرض ہونا۔

عَیْن (مونث) جمع عُیُون و اَعْیُن: آنکھ، بدنظری، چشمہ، منبع، سرچشمہ (پانی کا) سکاؤٹ، دیکھ بھال کرنے والا، سوراخ، بہترین حصہ، انتخاب، سب سے اچھا، بہترین جمع اَعْیَـان: ممتاز و اہم شخص، ممتاز لوگ، اہم لوگ، سرکردہ شخصیات، زعماء، لیڈران، معززین، ممتاز اشخاص، اصل، اصلی جزو، اصلیت، جوہر، لب لباب، خود، ذات۔ انفرادیت، شخصیت۔ ـــ: جائیداد منقولہ، اثاثہ، مادی قیمت کی چیز، ذاتی مادہ جائیداد، شخصیت، اصل اثاثہ۔ ـــ: نقد، کیش، حرف عین کا نام، عین السمکه: گٹا، سَوادُ العین: آنکھ کا ڈھیلا، آنکھ کی پتلی، شاهِدُ عین: چشم دید گواہ، عینی شاہد۔ اِسمُ العین: کسی مادہ شے کا نام، اسم محسوس (Concrete noun)۔ مجلس الأعیان: سینٹ Senate۔ فرض عین: فرد کا فرض بامِّ عِینه: خود اپنی آنکھوں سے یعینی رأسه خود اپنی آنکھوں سے، بچشم خود۔ بعینه: ذاتی طور، بالکل وہی، ہو بہو وہی۔ هو بعَینه: بالکل وہی، هو هو بعینه کوئی اور نہیں، وہی۔ هو شخص بعینه: وہ ایک حقیقی یا اصلی شخص، وہ فی الواقع زندہ موجود آدمی ہے۔ للسبب عَینه اسی وجہ سے علی العین و الرأس: بخوشی، بصد شوق۔ رَأیَ رایَ العین: خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، معلوم کرنا، دریافت کرنا، اعادَهُ اثرا بعد عین: کسی چیز کو مکمل طور پر تباہ و برباد کردینا۔ مَلَأ عینَه کی تسلی کرنا، نزل من عینی میرے دل میں اس کے لئے کوئی احترام نہیں رہا۔ نظر الیه بعین الاحتقار: کی طرف حقارت دیکھنا۔ وقعت العین علی العین: لڑائی شروع ہوگئی۔ عُیُونُ الشِعر: شعری جواہر، بہترین منتخب اشعار۔ عَینی: آنکھوں کا یا آنکھوں کے متعلق، چشم دید، حقیقی، مادی، اہم یا مادی قدر و قیمت کی اشیاء پر مشتمل جو پیداوار، سامان تجارت یا جنس کی صورت میں ہوں۔ عُیَینَة: شناخت جمع عینیات: آنکھوں سے متعلق یا عینک کا جزو۔ عَیِّن زوتا ہوا، بسورتا ہوا۔ عَیِّنَة جمع عَیِّنـات: بانگی، نمونہ، Sample، نمونہ، مثال Specimen۔ عَیِّنی نمونہ کا کام دینے والا، نمونہ کا۔ عُوَینات: عینک، مَعِین: چشمہ، پانی کا منبع۔ تعیین دیکھیں عَیَّن۔ ـ ح: تَعْیِینات راشن، خوراک، مراقب تعیین: کوارٹر ماسٹر، سٹاف سارجنٹ۔ صَوُل تعیین کوارٹر ماسٹر، سٹاف سارجنٹ۔ مُعَایَنَه: دیکھنا، جائزہ لینا، مساحت، معائنہ، نگرانی، قابو، کنٹرول، مشاہدہ۔ عِیَان: چشم دید گواہی دینا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، دیکھنا، صاف، واضح، سیدھا سادہ، لگی لپٹی رکھے بغیر صاف صاف آشکار۔ شاهد العِیان: چشم دید گواہ۔ بدا للعیان: روشنی میں آنا، نظر میں آنا، آنکھوں کے سامنے ہونا۔ شاهد عِیانی: چشم دید گواہ۔ مُعَیَّن مقررہ، معین کیا ہوا، صراحت کردہ، تقرر کیا ہوا، متعین کیا ہوا، تخصیص شدہ، نام زد کردہ، جدول بنایا ہوا، گوشوارہ تیار کیا ہوا، شرط کیا ہوا، شرط مقرر کیا ہوا، مقرر شدہ، مشکل معین Rhombus جمع مُعَیَّنات: مقررہ رقم، نرخ۔ مُعَیَّنُ الکراء: کرایہ، مکانی کرایہ۔ مُعَایِن: ناظر، تماشائی، دیکھنے والا، ٹیلیویژن دیکھنے والا۔

عیه: عَاهَ یَعِیهُ عَیْهًا: پر آفت نازل ہونا۔ العَائِهة: چیخ، شور و غل، چیخ و پکار۔ العَـاهَة: آفت ارضٌ مَعْیُوهَة: آفت زدہ سرزمین۔

عیّ: عَیَّ یَعَیُّ عَیًّا و عَیَاءً بامره و عن امره: کام سے عاجز ہوجانا، کو درست نہ کرسکنا، صورت مراد تک رسائی نہ ہونا۔ ـــالامرَ: کام سے ناواقف ہونا۔ عَیِیَ یَعْیَی عِیًا وعَیَاءً بامره و عن امره: بمعنی عَیَّ۔ ـ الامرَ: کام سے واقف نہ ہونا ـ عِیًّا فی النطق: بولتے بولتے یکدم رک جانا۔ صفت: عَیٌّ و عَیِیٌّ۔ عَیًّا ـــ تَعْیِیَةَ الرجُل: ایسی بات کرنا جس کی سمجھ نہ آئے۔ ـــصاحِبَهُ: ساتھی سے ایسی بات کرنا جس کا مطلب اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ عَایا مُعَایَاةَ الرجل: ایسی بات کرنا جس کی سمجھ نہ آئے، ـ صاحبه: ساتھی سے ایسی بات کرنا جس کا مطلب اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ اَعْیَا اِعْیَاءً الماشِیَ: پیدل چلنے والے کا تھک جانا، تھکا ماندہ ہوجانا۔ اِعْیَا، عجز سے کم تر ہے۔ ـــ ہ: کو تھکا دینا، تھکا ماندہ کردینا۔ ـــ الداءُ الطبیبَ: بیماری کا طبیب کو تھکا دینا، عاجز کردینا۔ ـ الأمرُ علیه: کو کام کا عاجز کردینا۔ تعَیَّا الامرُ علیه: کو کام کا عاجز کردینا۔ بالامر: کام کو درست نہ کرسکنا۔ تعَایا الامرُ علیه و تعَایاهُ: پر کام کا دشوار ہوجانا ـ واسْتَعْیَا بالامر: کام کو درست نہ کرسکنا۔ العَیاء (مص): عاجز ہونا۔ داءٌ عَیَاءٌ: وہ بیماری جس سے صحت نہ ہو۔ العَیّ جمع اَعْیَاء والعَیِیّ جمع اَعْیِیَاء واَعِیَّة: عاجز از کلام، تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔ العَیَّان: عاجز، تھکا ہوا۔ الاعیاء (طب) مفاصل اور عضلات میں بہت زیادہ تھکاوٹ جسے تعب بھی کہتے ہیں۔ الاعْیِیَّة: وہ کلام جس کے بیان سے عجز واقع ہو۔ المُعْیِی: تھکا ہوا، عاجز۔

غ

غ تلفظ غین۔ حروف تہجی کا انیسواں اور حروف ابجد کے لحاظ سے ایک ہزار کے برابر۔

غب ۱۔ غَبَّ ـُ غَبًّا و غِبًّا کئی روز کے بعد ملاقات کے لئے آنا۔ اسی سے یہ حدیث ہے۔ زُرْ غِبًّا تزدد حبًّا: کئی دن بعد آؤ تو تم سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ — عنه: کے پاس ایک دن آنا اور ایک دن نہ آنا۔ —— علیه الحُمّٰی: کو ایک دن چھوڑ کر بخار آنا۔ —— غَبًّا و غِبًّا و غُبُوبًات الماشية: چوپائے کا ایک دن پانی پینا اور ایک دن نہ پینا۔ صفت غَابَّة جمع غوابّ و غابّات: (ایک دن چھوڑ کر پانی پینے والا چوپایہ)۔ غَبَّبَ في الامر: کام میں مبالغہ نہ کرنا۔ — عنهم: لوگوں سے کوچ کرنا۔ اغَبَّ الماشية: چوپائے کو ایک دن پانی پینے اور ایک دن نہ پینے کا عادی بنانا۔ — القوم: لوگوں کے پاس ایک دن آنا اور ایک دن نہ آنا۔ لوگوں سے ایک دن ناغہ کر کے ملنا۔ اسی سے ضرب المثل ہے: اِغِبُّوا في عيادة المريض و اَرْبِعُوا: ایک دن چھوڑ کر بیمار کی عیادت کرو یا دو دن چھوڑ کر تیسرے دن عیادت کرو۔ —— تهُ الحُمّٰی واغَبَّت علیه: کو تیسرے دن کا بخار چڑھنا۔ الغَبّ (مص): في استعمال العامة: ایک ہی بار نگل کر پانی پینا۔ ایک گھونٹ میں سارا پانی پی جانا۔ حُمّٰی الغِبّ: تیسرے دن کی باری کا بخار۔ حُمّٰی غِبٌّ: (ترکیب توصیفی بھی) تیسرے دن کی باری کا بخار۔ الغُبَّة: زندگی بسر کرنے کا ضروری سامان۔

۲۔ غَبَّ ـُ غَبًّا و غِبًّا عنده: کے پاس رات گذارنا۔

۳۔ غَبَّ ـُ غَبًّا و غِبًّا و غُبُوبًا و غُبُوبَةً الطعامُ: کھانے کا باسی ہو جانا، سڑ جانا۔ غَبَّبَ الشيُّ: چیز کا خراب ہو جانا۔ اغَبَّ عنده: کے پاس رات گزارنا۔ — الطعامُ: کھانے کا سڑ جانا۔ الغابّ (فا) والغَبِيب: باسی گوشت۔ الغَبِيبَة: صبح کا دودھ جو رات سے ہی دوہ لیا جائے پھر صبح کو بلو کر مکھن نکال لیا جائے۔

۴۔ غَبَّ ـُ غَبًّا و غِبًّا و غُبُوبًا و غُبُوبَةً الامورُ: کاموں کا اپنے انجام کو پہنچ جانا۔ الغِبّ (مص): جمع اغباب: انجام۔ کہا جاتا ہے۔ للامر غِبٌّ: اس کام کا ایک انجام ہے۔ بعد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ماءٌ غِبٌّ: پانی جو دور ہو۔ المَغَبَّة: انجام شئے کہا جاتا ہے۔ للامر مِغَبّ و مَغَبَّة: اس کام کا ایک آخری نتیجہ اور انجام ہے۔

۵۔ غَبَّ ـُ غَبًّا و غِبًّا الرای: سوچ سمجھ کر رائے قائم کرنا۔ اس سے ضرب المثل ہے: رُوَيْدَ الشِّعْرَ يَغِبَّ: شعر غور و فکر کے بعد اور جلدی کئے بغیر پیش کرو۔ يغبّ جواب امر کے طور پر مجزوم ہے اور اس پر زبر دو ساکن حرف آنے کی وجہ سے ہے۔

۶۔ غَبَّ الذئبُ: بھیڑیے کا بکری کو حلق سے پکڑنا۔

۷۔ نجمٌ غابٌ: ساکن ستارہ۔ الغَبّ جمع اغباب و غُبُوب و غُبّان: مد کے وقت سمندری پانی جو خشکی میں گھس گیا ہو۔ نرم زمین۔ الغَبَب جمع اغباب: مرغ اور گائے وغیرہ کے جبڑے کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت۔ الغَبِيب: پہاڑ یا زمین پر پانی بہنے کا تنگ اور چھوٹا نالہ۔ التَّغِبَّة: جھوٹی گواہی۔

۷۔ الغَبْغَب جمع غَبَاغِب: مرغ اور گائے وغیرہ کے جبڑے کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت۔

○ غابانی: کشمیرا، ایک نرم اونی کپڑا۔ غار: دیکھو غور

غاز جمع غازات: گیس، پٹرولیم، تیل۔ الغازات السامة: زہریلی گیس۔ غازی: [illegible]

مِيَاهٌ غازية: معدنی پانی، سوڈا۔ غازوزة: سوڈا واٹر۔

غال جمع غالات: تالا، قفل۔ الغال: گال (ایک ملک کا نام) غالی: گال کا باشندہ جمع غالون۔ غانة و غانا: گھانا (ملک کا نام)

غَبَّ هُ / علی: کو بخار کا ایک دن چھوڑ کر چڑھنا۔

غِب: انجام، نتیجہ، اثر۔ غِبَّ: کے بعد زاره غِبًّا: وقفہ وقفہ سے کسی کو ملنا۔ حُمّٰی الغِبّ: تیسرے دن کا باری کا بخار۔ غَبَب جمع اَغْبَاب: بیل وغیرہ کی گردن کے نیچے لٹکا ہوا ماس۔ گلتھا۔ چھپر۔ مَغَبَّة جمع مَغَبَّات: انجام، نتیجہ، اثر۔ غَبَّ ـُ (=عَبَّ ـُ) ہ: کو ہڑپ کرنا۔ نگلنا، انڈیلنا، ایک ہی بار پی جانا۔ غُبَّة: ہڑپ کرنا۔ نگلنا، جتنا کچھ ایک ہی بار نگلا جائے۔ گھونٹ، جرعہ۔

غبث: غَبَثَ ـُ غَبْثًا الجبنَ بالسمن: پنیر کو گھی میں ملانا۔ اِغْبَثَّ: خاکی رنگ کا ہونا صفت اَغْبَث۔ الغُبْثة: مٹیالا پن۔

غبج: غَبِجَ ـَ غَبْجًا الماءَ: پانی کو لگاتار گھونٹ بھر کر پینا۔ الغُبْجَة: گھونٹ۔

غبر ۱۔ غَبَرَ ـُ غُبُورًا: گزر جانا، ٹھہر جانا (ضد)۔ الغابر (فا): جمع غُبَّر و غابرون: گزشتہ، باقی ماندہ۔ (ضد)۔ کہا جاتا ہے۔ هو غابرُ بني فلان: وہ فلاں خاندان کے بقایا میں سے ہے۔ غُبَّرُ الشيِّ: کسی چیز کے بقایا حصے۔ غُبَّرُ الليل: رات کی پچھلی گھڑیاں۔ غُبَّرُ الناس: مرتبہ میں گھٹے ہوئے لوگ۔ الغُبْر جمع اَغْبَار و الغُبَّر جمع غُبَّرات: کسی چیز کا بقیہ۔ غُبَّرُ المرض: بیماری کے رہ جانے والے اثرات۔ الغِبَر: بقا و ثبات۔ داهية الغِبَر: نہ ٹلنے والی سخت مصیبت۔ الاغْبَر جمع غُبْر: جانے والا، کہا جاتا ہے: لايغبرنك

عِزُّ الدنیا فانه اغبر: دنیا کی عزت سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا کیونکہ وہ فانی ہے۔ الغُبَیْرَۃ جمع غُبَیْرات (ن) پودے سے علیحدہ ہو جانے والا خلیہ، جو بعد ازاں جنسی افزائش نسل کے بغیر پھوٹتا ہے۔

۲۔ غَبَرَ ـُ غُبُورًا خاکی رنگ کا ہونا۔ غَبِرَ ـَ غَبَرًا گرد آلود ہونا۔ غَبَّرَ غبار اٹھانا۔ الشیئَ کو غبار آلود کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ غَبَّرَ فی وجه فلان: دوڑ میں کسی سے آگے نکل جانا۔ اَغْبَرَ: خاکی رنگ والا ہو جانا، غبار اٹھانا۔ ـ فی الامر: کام پر توجہ کرنا اور اس کو کرنے کی کوشش کرنا۔ ـ ت السماءُ: آسمان سے شدید بارش برسنا۔ اِغْبَرَّ: غبار آلود ہونا۔ الیوم: دن بھر شدید گرد و غبار رہنا۔ الغُبار: خاک یا خاک کے باریک ذرات۔ الغِبر: کینہ، دلی کدورت۔ الغَبَر: خاک۔ الغَبَرۃ: غبار آلود ہونا۔ الغُبُرَۃ: غباری رنگ۔ ـ والغَبَرۃ: گرد و غبار الأَغْبَر جمع غُبْر: وہ جس کا رنگ خاکی ہو۔ (ح): بھیڑیا (خاکی رنگ ہونے کی وجہ سے)۔ سخت بھوک کی صفت بھی اغبر لاتے ہیں۔ کہا گیا ہے۔ الجوع الاغبر والموتُ الاحمر: سخت بھوک اور قاتل موت۔ الغَبْراء: اَغْبَر کا مونث۔ (ح): مادہ چکور، زمین، کہا جاتا ہے۔ ما اظلّت الخضراء ولا اقلت الغبراء مثل فلان: آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر فلاں کی مثال نہیں۔ بنو غبراء و بنو الغبراء: فقراء، مفلس لوگ۔ سَنَةٌ غبراء: قحط کا سال، جس میں بارش نہ برسے۔ الغُبَیراء (ن) ایک درخت جس کی لکڑی عمدہ ہوتی ہے اور آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے۔ جوار کی شراب۔ المِغْبار من النخل وغیرها: گرد آلود درخت خرما وغیرہ

۳۔ غَبِرَ ـَ غَبَرًا الجرحُ: زخم کا خراب ہونے کے بعد بھر جانا اور پھر پھوٹ پڑنا۔ صفت غَبِر الغَبِر: ناسور۔ جُرحٌ غَبِرٌ: وہ زخم جو برابر پھوٹتا رہے۔

۴۔ غَبَّرَ الرجلُ: تہلیل پڑھنا، پڑھتے ہوئے یا گاتے ہوئے لہردار آواز نکالنا۔ کنکری بھرنا۔ المُغَبِّرَۃ: وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا نام بات بات پر پکارتے ہیں۔

○ غَبَرَ ـُ غُبُورًا: گزر جانا۔ ـ غُبِرَ: گزرا ہوا ہونا غَبَّرَ ہ کو خاک آلود کرنا، مٹی سے ڈھکنا، کو گندہ کرنا، پر دھبا ڈالنا۔ غَبَّرَ خاک اٹھانا، غبار اٹھانا۔ غَبَّرَ فی وجهه: سے آگے نکل جانا، سے برتر ہونا، پر فوقیت لیجانا، سے بازی لیجانا، سے بہتر کام کرنا۔ اَغْبَرَ بمعنی غَبَّرَ تغَبَّرَ: خاک آلود ہونا، مٹی یا غبار سے اٹا ہوا ہونا۔ اِغْبَرَّ: خاکی رنگ کا ہونا۔ خاکستری رنگ کا ہونا۔ غَبِر دوبارہ پھوٹا ہوا (زخم) غُبْرَۃ: خاکی رنگ غَبَرَۃ: گرد و غبار، غبار: گرد و غبار جمع اَغْبِرَۃ: گرد و غبار، بادل، لاغبار علیه: صاف، شفاف، واضح، بین، صریح، ناقابل اعتراض، ناقابل تردید، بے قصور، بے گناہ، بے عیب، بے داغ، معصوم، معصوم عن الخطا، جس سے کوئی غلطی نہ ہو سکے، (اخلاقی طور پر)، ماشقّ غبارہ: وہ اس کے معیار کو نہ پہنچا، وہ کبھی اس جیسی امتیازی حیثیت کو حاصل نہیں کر سکا۔ لایُشَقُّ غبارہ یا لایُشَقُّ لَهُ غبارٌ: اس پر کوئی سبقت نہیں لیجا سکتا، وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ جری فی غبارہ: کسی کا وفاداری سے اتباع کرنا۔ اَغْبَر مونث غَبْراء جمع غُبْر: خاکی رنگ کا، خاک میں اٹا ہوا، غبار آلود۔ الاغبر: زمین، میدان۔ الغَبْراء: زمین۔ اِغْبِرار علی: سے کینہ، بغض، کے خلاف برہمی (کا اظہار)۔ غابِر جمع غوابِر: گزرا ہوا، ماضی، الازمان الغابرۃ یا القدیمۃ الغابر: پرانے وقت، قدیم زمانہ۔

غبس: غَبَسَ ـُ غَبْسًا واَغْبَسَ و اغباسَ اللیلُ: رات کا تاریک ہو جانا صفت اَغْبَس جمع غُبْس۔ اَغْبَسَ اللیل: رات کا تاریک ہونا۔ ـ الشیئُ: کسی چیز کا خاکستری رنگ ہو جانا۔ الغُبْسَة والغَبَس: خاکستری رنگ، اول شب کی تاریکی۔

غبش: ۱۔ غَبِشَ ـَ غَبَشًا واَغْبَشَ اللیلُ: آخر شب میں روشنی کا تاریکی میں مخلوط ہو جانا۔ الغَبَش جمع اَغْباش: رات کا باقی حصہ۔ آخر شب کی تاریکی۔ لیلٌ غَبِشٌ: تاریک رات۔ الغُبْشَة: رات کا باقی حصہ۔ لیل اَغْبَش جمع غُبْش تاریک رات۔ لیلة غَبْشاء: ایک تاریک رات۔

۲۔ تَغَبَّشَ ہ کو دھوکا دینا۔ پر ظلم کرنا، کے خلاف جھوٹا دعوی دائر کرنا۔ الغابِش: ملاوٹ کرنے والا، دھوکے باز، ظالم۔

○ غَبَش جمع اَغْباش: تاریکی، دھندلا پن، سورج نکلنے سے قبل جھٹپٹا، رات کے آخری سائے، غَبِش: تاریک (رات)، غیر شفاف، مبہم، غُبْشَة: فجر کا جھٹپٹا۔ اَغْبَش م غبشاء جمع غُبْش تاریک (رات) مبہم، غیر شفاف۔ غَباشَة: آنکھوں کی کمزوری، ضعف بصارت۔

غبص: غَبِصَ ـَ غَبَصَت العینُ: بہت رونے کی وجہ سے آنکھ سے ڈھیڈ یعنی کثافت زیادہ نکلنا۔ الغَبَص (مص): بہنے والی ڈھیڈ۔ آنکھ سے بہنے والا کثیف پانی، کہا جاتا ہے۔ فی عینه غَبَصٌ اس کی آنکھ میں ڈھیڈ ہے۔

غبط: ۱۔ غَبَطَ ـِ غَبْطًا الکبشَ: ہاتھ سے مینڈھے یا بکری کی کمر ٹٹولنا، جس سے اس کا موٹا یا دبلا ہونا معلوم ہو۔

۲۔ غَبَطَ ـِ و غَبِطَ ـَ غَبْطًا و غِبْطَةً ہ کا نظروں میں چڑھنا، دوسرے کی نعمت وغیرہ اپنے لئے بھی چاہنا مگر اس سے اس نعمت وغیرہ سے زوال کی خواہش نہ ہو یعنی کسی پر رشک کرنا۔ غابِط جمع غُبَّط: رشک کرنے والا مَغْبُوط: جس پر رشک کیا جائے۔ غَبَّطَ ہ کسی کو رشک کرنے پر آمادہ کرنا، کسی کے فعل کو قابل رشک کرنے پر آمادہ کرنا، کسی کے فعل کو قابل رشک قرار دینا۔ اِغْتَبَطَ و اَغْتُبِطَ شادمان اور خوش حال ہونا۔ الغِبْطَة: خوشحالی، شادمانی، رشک۔ عیسائی پوپ کا لقب۔

۳۔ اَغْبَطَ النباتُ: پودوں کا پاس پاس اگنا اور زمین کو ڈھک لینا۔ اَرْضٌ مُغْبِطَة: گھنے پودوں والی زمین جسے ان پودوں نے ڈھک رکھا ہو۔

۴۔ اَغْبَطَ السحابُ: بارش مسلسل برسنا کہا جاتا ہے۔ اَغْبَطَ علینا المطرُ: ہم پر مسلسل بارش ہوئی۔ ـ ت الحُمّی علیه: کو لگاتار بخار کا چڑھا رہنا۔ سماءٌ غَبْطَی: مسلسل برسنے والا بادل۔ الغَبِیط جمع غُبُط: کجاوہ جس پر ہودہ لگایا جائے۔ نرم زمین جس کے جانبیں بلند ہوں۔ پانی کا نالہ جو ٹیلوں کو کاٹ کر اپنا راستہ بنا لے۔

۵۔ الغَبْطَ ـُ الغِبط جمع غُبُوط: کھیت کاٹتے وقت جتنی مقدار مٹھی میں آئے۔

○ غَبَطَ ـِ غِبْطَةً علی: پر کسی چیز کی وجہ سے رشک کرنا۔ غُبِطَ (مجہول) خوش ہونا۔ غَبَّطَ ہ کو حاسد بنانا، کو خوش قسمت سمجھنا، کو خوش کہنا۔ اِغْتَبَطَ ب: پر، کے بارے میں خوش ہونا، شادمان ہونا۔ پر نازاں ہونا۔ پر مطمئن ہونا۔ سے خوش ہونا۔ غِبْطَة خوشی کی حالت، خوشی، مسرت، وجد، بے حد خوشی، پوپ کا لقب۔ صاحب الغِبْطَة: فضیلت مآب پوپ۔ کان محلّ غِبْطَة: قابل رشک ہونا۔ مَغْبُوط قابل رشک، خوش، خوش قسمت، خوش نصیب، مبارک۔ (عیسائی) اولیاء کی مسلمہ فہرست میں شامل۔

غبق: غَبَقَ ـُ غَبْقًا ہ: کو شام کی شراب پلانا۔ ـ الغنمَ: بکری کو شام کے وقت پانی پلانا۔ یا اس کا دودھ نکالنا/دوہنا۔ غَبَّقَ ہ: کو شام کی شراب پلانا۔ اِغْتَبَقَ: شام کی شراب پینا۔ ـ الخمرَ: شراب کو شام کے وقت پینا۔ و تَغَبَّقَ الناقةَ: اونٹنی کو شام کے وقت دوہنا۔ الغَبُوق: شام کو پی جانے والی شراب۔ اس کے مقابل صبح کو پی جانے والی شراب الصَّبُوح کہلاتی ہے۔

شام کو دوہا جانے والا دودھ کہا جاتا ہے: لَقِیتُهُ ذاصَبُوحٍ و ذاغَبُوقٍ: میں نے اس سے صبح اور شام کو ملاقات کی۔ ــــ والغَبُوقَة جمع غَبَائِق: شام کو دوہی جانے والی اونٹنی۔ الـمِغْبَقان جمع غَبَاقَى: شام کو شراب پینے والا۔ کہا جاتا ہے۔ رجلٌ غَبْقان و امرأة غَبْقَى: شام کو شراب پینے والا مرد، شام کو شراب پینے والی عورت۔

غبن: ۱۔ غَبَنَ ـُ غَبْنًا الثوبَ: کپڑے کو موڑ کر سینا تا کہ تنگ یا چھوٹا ہو جائے۔ ــــ الطعامَ: غلہ کو تختی وقحط کے زمانہ کیلئے چھپا کر رکھنا۔ اِغْتَبَنَ الشئَ: کو بغل میں چھپا لینا۔ الغَبَن: کپڑے کے کنارے جو کاٹ کر پھینک دیئے جاتے ہیں۔ المَغْبِن جمع مَغَابِن: جسم کی برتہ، بغل، وادی کا بہت بڑا حصہ۔

۲۔ غَبَنَ ـُ غَبْنًا الرجُلَ کے پاس سے بغیر چھپے اس طرح گزرنا کہ اسے اس کی موجودگی کا علم نہ ہو سکے۔ غَبِنَ ـَ غَبْنًا و غَبَنًا الشئَ و فیه. کو بھول جانا اور اس میں غلطی کر بیٹھنا ــ غَبْنًا و غَبَانَةً رایَهُ: ذہانت کا کم ہو جانا، ضعیف الرای ہو جانا۔ الغَابِن (فا): کام چور، عمل میں سستی کرنے والا الغَبْن و الغَبَن و الغَبَانَة: رائے کی کمزوری، بھول جانا۔ الغَبِین و المَغْبُون: ضعیف الرای

۳۔ غَبَنَ ـِ غَبْنًا و غَبَنًا فی البیع او الشراء: کو خرید و فروخت میں دھوکا دینا، اپنا پلہ بھاری کر لینا۔ فلانًا: کو دام بھاؤ میں نقصان پہنچانا۔ غابِن: دام و بھاؤ میں نقصان پہنچانے والا۔ مَغْبُون: جسے دام و بھاؤ میں نقصان پہنچایا گیا ہو۔ تَغَابَنَ القومُ: معاملات میں بعض کا بعض کو نقصان پہنچانا۔ الغَبْن (مص) والغَبَن: خرید و فروخت میں دھوکہ بازی۔ الغَبِینَة: دھوکہ۔ المُغَابَنَة: خرید و فروخت میں دھوکہ بازی۔

غَبَنَ ــ غَبْنًا ہ فی: کو میں دھوکا دینا، چرکہ دینا، جل دینا، دھوکہ دیکر فائدہ اٹھانا، کو ٹھگنا، کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کو مرعوب کرنا۔ غَبْن و غَبَن جمع غُبُون: فراڈ، دھوکہ، فریب، دغا، ٹھگی، ٹھگ لینا، جل دینا، نقصان، ظلم، غَبْنٌ فاحِش: مجرمانہ فریب۔ غَبَن: حماقت، کند ذہنی۔ تـغابُن: باہمی فریب دہی۔ یوم التغابن: یوم البعث، مغبون: جسے دھوکا دیا گیا ہو، فریب دیا گیا ہو، جل دیا گیا ہو، ٹھگ لیا گیا ہو، فریب خوردہ، جس سے ظلم کیا گیا ہو، مظلوم، جسے نقصان پہنچایا گیا ہو۔ عادَ او رَجَع بصَفْقَةِ المغبون. خالی ہاتھ واپس آنا۔ ہار جانا۔

عبا: غَبِیَ ـَ غَبًا و غَبَاوَةً الشئَ و عنه کو نہ سمجھنا، سے ناواقف رہنا۔ الشئُ علیه: پر مخفی رہنا ــــ عنه الخبرُ: سے جاہل ہونا، غافل ہونا۔ ــ منه الشئُ: سے مخفی ہونا۔ تَغَبَّى و استَغْبَى هُ: کو غبی سمجھنا یا پانا۔ تَغَابَى تَغَابِیًا عنه و تغابَى هُ: سے دانستہ غفلت برتنا۔ الغَبَاء: زمین کی پوشیدگی ــ من التراب: اوپر اٹھا ہوا گرد و غبار۔ الغَبْوَة و الغُبْوَة: غفلت، الغَبَاوَة و الغَبِی: جہالت، کم سمجھی، غفلت۔ الغَبِیُّ جمع اَغْبِیاء و اغباء: کم سمجھ، جاہل۔

غَبِیَ ــ غَبَاوَةً ہ/عن: کو پوری طرح نہ سمجھنا، کا ادراک نہ کرنا، سے ناواقف ہونا، کے بارے میں کوئی علم نہ رکھنا: ــ علی: کے لئے نامعلوم یا غیر معروف ہونا۔ اجنبی، غیر مانوس یا انجانا ہونا۔ تغابَى عن: سے بے خبر ہونا۔ غَبِی جمع اَغْبِیاء: بے وقوف، غیر دانشمند، نا معاملہ فہم، جاہل، بے خبر، لاعلم، ناواقف احمق، کند ذہن، جاہل مطلق، غَبْوَة: پہیلی، معما، اغبَی: زیادہ احمق، زیادہ سادہ لوح۔

غبی: ۱۔ غَبَّى تَغْبِیَةً الشئَ: کو چھپانا۔ الغَبَاء و الغَبْیَة من التراب: اوپر اٹھا ہوا گرد و غبار، کہا جاتا ہے: جاء علی غُبْیَةٍ من الشمس: وہ سورج چھپنے کے وقت آیا۔ الأغْبَى من الاغصان م غَبْیاء جمع غُبْیٌ: باہم گتھی ہوئی شاخیں۔ شَجَرَةٌ غبیاء: گنجان شاخوں والا درخت۔ الـمَغْبَاة جمع مَغَاب: درندوں کو شکار کرنے کے لئے کھودا جانے والا گڑھا۔

۲۔ غَبَّى تَغْبِیَةَ الشَّعَرِ: بالوں کو کاٹنا یا مونڈنا۔

۳۔ اَغْبَى السحابُ: ہلکی بارش برسنا۔ الغَبْیَةُ: ہلکی بارش، یا بارش کا ایک تیز چھینٹا۔

غـت: غَـتَّ ـُ غَتًّا الشئَ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا۔ ــــ الضحكَ: اپنے منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ کر ہنسی کو چھپانا۔ ــــ الماءَ: پانی کو برتن منہ سے ہٹائے بغیر گھونٹ گھونٹ پینا۔ ــ فلانًا: کو صدمہ پہنچانا، کا گلا گھونٹنا ــ فلانًا بالامر: کو معاملہ میں دقت اور غم میں ڈالنا ــ هُ بالکلام: کو لاجواب کر دینا۔ ــ الطعام او الکلامُ: کھانے یا بات کا بگڑ جانا غَتَّ او اَغَتَّ الطعامَ: کھانے کو بگاڑ دینا۔

غَتَّ ـُ غَتًّا ہ کو دبانا، کا ٹیٹوا دبانا، کا گلا گھونٹنا۔ ــ ہ فی: کو میں ڈبو کر نکال لینا، کو غوطہ دینا، ڈبو دینا۔ غتَّ الضحكَ ہنسی ضبط کرنا، ہونٹ کاٹنا۔

غتل: غَتِلَ ــ غَتَلًا المكانُ جگہ کا بہت درختوں والا ہونا۔ ایسی جگہ کو غَتِل کہتے ہیں۔

اَغْتَم الـزیارةَ اتنی کثرت سے ملنا کہ وہ تنگ آ جائے۔ الغَتْم: دم گھونٹنے والی سخت گرمی۔ الغُتْمَة بولنے میں غلطی کرنا۔ الاَغْتَم والغُتمی: فصیح بات نہ کر سکنے والا کہا جاتا ہے۔ رجُلٌ اغتم وقَومٌ غُتم واغتام و امراة غتماء: (فصیح بات کرنے سے قاصر مرد، لوگ، عورت)

غث: ۱۔ غَثَّ ـِ غَثَاثَةً و غُثُوثَةً ت الشاةُ: بکری کا دبلا ہو جانا۔ غَثَّة: دبلی بکری۔ ــــ اللحمُ: گوشت کا دبلا ہونا۔ اَغَثَّ: دبلا ہونا، لاغر ہونا۔ ــــ اللحمَ: دبلا گوشت خرید لینا۔ تَغَثَّثَ الشئَ: کو قلیل و کم مقدار سمجھنا۔ اَغَثَّ ت الخیلُ: گھوڑوں کا موسم بہار میں سبز چارہ پانا۔ الغَثّ: لاغر، دبلا پتلا۔ الغَثِیث: لاغر، دبلا، پتلا،

۲۔ غَثَّ ـِ غَثَاثَةً و غُثُوثَةً حدیثُ القوم: کا کلام کا فاسد اور ردی ہونا۔ ـِ غَثًّا و غثیثًا الجرحُ: زخم سے پیپ بہنا۔ ــــ علیه المکانُ: کے لئے جگہ کا ناموافق ہونا کو جگہ راس نہ آنا۔ کہا جاتا ہے۔ فلانٌ لایغث علیه شیٔ: یعنی فلاں کے نزدیک کوئی چیز ردی قابل ترک نہیں۔ اَغَثَّ فی الکلام: نکمی یا بیکار بات کرنا۔ اَغَث: فاسد ہونا۔ اِستَغَثَّ الجُرحَ: زخم کا علاج کرنا اور اس میں سے پیپ نکالنا۔ الغَثّ من الکلام: نکمی یا بے خیر بات۔ غثیثُ الجرح: زخم کی پیپ اور فاسد مادہ۔ الغَثِیثَة: جس چیز میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ خرابی عقل۔ غثیثةُ الجرح: زخم میں موجود پیپ اور فاسد مادہ۔

غَثَّ ــ غَثَاثَةً و غُثُوثَةً: لاغر ہونا یا ہو جانا، دبلا پتلا ہونا یا ہو جانا، ناکافی ہونا یا ہو جانا، غَثَّ ــ غَثًّا و غثیثًا: (زخم میں) پیپ پڑ جانا، زخم کا خراب ہو جانا، ناسور بن جانا، پیپ نکلنا۔ غَثّ: لاغر، دبلا پتلا، ناکافی، بہت کم، غریب، ومفلس، مصیبت زدہ، بدنصیب، غثیث: لاغر، دبلا پتلا، پیپ، فاسد مادہ۔ غَثَاثَة: لاغری، دبلا پن۔

غثر: ۱۔ غَثِرَ ـَ غَثَرًا المکانُ بالنبات: جگہ کا سبزی سے لہلہانا، اِغثَارَّ الثوبُ: کپڑے کا زیادہ رواں والا ہونا۔ صفت: اغثر۔ الغثر: کپڑے کا رواں۔ الغَثَرة: زرخیزی، فراوانی، بہتات الـغَثْـرَة: سبزی مائل سرخ رنگ۔ الأغْثَر م غثراء جمع غُثْر: سبزی مائل سرخ رنگ کا۔ اون کے زیادہ ریشوں والا کمبل۔ کائی، جاہل۔ (ح): شیر، بھیڑیا۔ الغثراء (ح): چرخ، لگڑ بگڑ، ارضٌ مَغْثَرِیَة: لہلہاتے کھیتوں والی زمین۔

۲۔ اَغْثَرَ المشجرُ: درخت سے گوند کی قسم کا سیال مادہ بہنا۔ المِغثر والمِغثار و المَغثور جمع مَغاثیر: درختوں سے بہنے والی گوند جو شہد جیسی مگر بدبودار ہوتی ہے۔

۳۔ الغُثْر والغَثَرۃ والغَثْراء والغَیْثَرۃ (اغثر کا واحد): پست طبقے کے لوگ۔

غثم: غَثَمَ ۔غَثْمًا له کو مال کی اچھی خاصی قسط دینا۔ الغُثْمۃ: سیاہی مائل سفیدی الاَغْثَم: سیاہی مائل سفید۔ المَغْثُوم ملاوٹ دار۔

غثو: غثا ۔ غَثْوًا وغُثُوًّا واَغْثَی الوادی: نالے میں کوڑے کرکٹ کی کثرت ہونا۔ ـــ السیلُ المَرْتَعَ: سیلاب کا چراگاہ اور سبزہ زار کی تروتازگی ختم کر دینا۔ الغُثَاء والغُثَّاء سیلاب کے پانی کے جھاگ میں کوڑا کرکٹ، اور درختوں کے گلے سڑے پتے جو سیلاب کی جھاگ میں رلے ملے ہوں۔

غثی: غَثی ـِـ غَثْیًا الکلامَ: بات میں جھوٹ سچ کی ملاوٹ کرنا۔ ـــ الوادی: نالے میں کوڑے کرکٹ کی کثرت ہونا۔ غَثْیًا وغَثَیانًا النفسُ: جی متلانا۔ ـ ت السماء بالسحاب: گھٹا کا چھاجانا یا بادلوں کا آنا شروع ہو جانا۔ غَثِیَ ۔غَثْیًا الکلامَ: بات میں جھوٹ سچ کی ملاوٹ کرنا۔ اَغْثَتِ الارضُ بالنبات: زمین میں سبزہ کی بہتات ہونا۔ تغثّتِ النفس: جی کا متلانا۔

○ غَثَی ـِ غَثْیًا ہ کو گڈمڈ کرنا، درہم برہم کرنا، خلط ملط کرنا، مخلوط کرنا، میں تحریف کرنا۔ غثت نفسهُ غَثَیانًا و غَثِیَتْ نفسه جی متلانا، طبیعت کا ناساز ہونا، بیمار محسوس کرنا۔ غَثْیی متلی، مالش، کراہت، گھن، قے، متلی، ناسازی طبع، علالت، غَثَیان متلی، مالش، کراہت گھن، ناسازی طبع۔ ...ت۔ غُثاء جھاگ، گندگی، تلچھٹ۔

غد: ا۔ غَدَّ ۔غَدًّا و غُدّ غدود کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ ـــ البعیر اونٹ کا طاعون شتری میں مبتلا ہونا۔ غُدِّدَ: غدود کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ اَغدَّ بمعنی غُدِّدَ۔ مُغِدّ غدود کی بیماری میں مبتلا۔ ـــ علیه پرغصہ میں بھر جانا۔ اُغِدَّ غدود کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ مُغَدَّ غدود کی بیماری میں مبتلا۔ الغُدَدجمع غِداد: اونٹوں کا طاعون۔ الغُدَّۃجمع غُدَد وغدائِد: غدود ـ و الغدد جمع غدد وغدائد اونٹوں کا طاعون، گلٹی المِغْدَاد غصیارا، بہت غصہ ہونے والا۔ (مذکر و مونث دونوں کیلئے)۔

۲۔ غدّد نصیبة اپنا حصہ لے لینا۔ الغُدَّۃجمع غَدائِد: مال کا ایک ٹکڑا، سودا۔

○ غُدّۃ جمع غُدَد غدود (Gland) الغُدَّۃ الدَرَقِیَّۃ: سپری غدود، سپر نما غدود Thyroid gland۔ غُدّۃ صَمّاء، غیر مسام دار غدود۔ endocrine or ductless gland۔ الغُدَّۃ الصنوبریۃ صنوبری غدود Pineal gland غُدَدِی: غدودوں کا، غدودی Glandular۔

غدر: ا۔ غَدَرَ ـُـ و غَدِرَ ۔غَدْرًا و غَدَرانًا الرجلَ وبه: سے خیانت کرنا، کے ساتھ بدعہدی کرنا۔ الغادِر (فا) جمع غادِرُون وغَدَرَۃ و غُدّار م غادِرۃ جمع غادِرات و غَوادِر: خائن، خیانت کرنے والا، بدعہد الغَدَر و الغُدَرۃ والغَدّار والغُدُور والغِدّیر: بڑا دھوکے باز، خائن اور بدعہد، کہا جاتا ہے۔ رجلٌ غَدُور جمع غُدُر وامرأۃٌ غدور: غدار مرد، غدار عورت، رجلٌ غَدّار و امرأۃ غَدّار و غَدّارۃ: غدار مرد، غدار عورت، گالی کے طور پر مرد کو "یا غُدَر" بمعنی یا غادِر جمع یا آلَ غُدَر عورت کیلئے: یا غَدَارِ کہتے ہیں الغَدّارۃ جمع غَدّارات (اع): پستول (Pistol)

۲۔ غَدِرَ ـَـ غَدَرًا الرجلُ: تالاب کا پانی پینا۔ ـــ عن اصحابه: ساتھیوں سے بچھڑ جانا، پیچھے رہ جانا۔ غادَرَ غِدارًا و مُغادَرَۃً ہ: کو چھوڑ دینا، باقی رہنے دینا۔ اَغْدَرَہ: کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جانا، باقی رہنے دینا۔ تَغَدَّرَ: ساتھ چھوڑ دینا، پیچھے رہ جانا۔ اِغْتَدَرَ الرجلُ: تالاب بنانا۔ اِسْتَغْدَرَ المکانُ: جگہ کا تالابوں والا ہو جانا۔ الغَدَر: نہر کا پانی خشک ہو جانے پر رہ جانے والی کیچڑ۔ ـــ و الغَدَرَۃ و الغُدْرَۃ و الغُدارۃ: کسی چیز کا باقی ماندہ حصہ۔ الغَدِیر جمع غُدُر وغُدْر و غُدْران و اَغْدِرۃ: نہر، سیلاب اتر جانے کے بعد گڑھوں میں رہ جانے والا پانی۔ گھاس اور پودوں کا قطعہ۔ الغَدِیرۃ جمع غُدْران: پودوں کا قطعہ۔

۳۔ غَدِرَ ـَـ غَدَرًا المکانُ: کسی جگہ کیچڑ زیادہ ہو جانا یا پتھروں کا معہ درختوں کے زیادہ ہونا۔ اَغْدَرَہ کو تالاب میں گرا دینا۔ الغَدَر (مص) سخت اور پتھریلی جگہ۔ پتھر جن کے ساتھ درخت ہوں۔

۴۔ غَدِرَ ـَـ غَدَرًا اللیلُ: رات کا تاریک ہو جانا اَغْدَرَ اللیلُ: رات کا تاریک ہو جانا۔ الغَدْراء: تاریکی لیلۃٌ غَدْرَاء و غَدِرَۃ و مُغْدِرَۃ: تاریک رات۔

۵۔ الغَدِیرۃ جمع غدائر: عورتوں کے بالوں کی گندھی ہوئی چوٹی۔

○ غَدَرَ ـِ غَدْرًا ہ/ ب/ فی: سے بیوفائی کرنا، غداری کرنا، دغابازی کرنا۔ ـــ ہ/ ب کے ساتھ دورخی سے کام لینا، کو دھوکا دینا، کو دغا دینا، سے غداری کرنا، کو بہکانا، سبز باغ دکھلانا، غَدْر بیوفائی، غداری، بدعہدی، دغا، دھوکا، بغاوت، دغا۔ غَدِیر جمع غُدُر وغُدْران: تالاب، جوہڑ، قدرتی تالاب، سڑک وغیرہ پر بارش کے گدلے پانی کا گڑھا۔ دریا، ندی، نالہ، آبجو، کھاڑی، دریا کی شاخ۔ غَدّار: بیوفا، دغاباز، غدار، جھوٹا، بے ایمان، فریبی، مکار۔ غَدّارۃ جمع غَدّارات: پستول غدّارۃ سریعۃ الطلق: سب مشین گن، ٹومی گن (Tommy gun) غادر بمعنی غَدّار۔

غدف: ا۔ غَدَفَ ـُـ غَدْفًا و غَدَّفَ له فی العطاء: کو بہت عطا کرنا۔ اِغْتَدَفَ منه: سے کوئی چیز بڑی مقدار میں لے لینا۔ ـــ الثوبَ: کپڑا اتر اشنا۔ الغَدَف: نعمت، فراوانی، زرخیزی، بہتات، کہا جاتا ہے: ھم فی غَدَفٍ: وہ خوش حال ہیں۔

۲۔ اَغْدَفَ اللیلُ: رات کی تاریکی چھا جانا۔ و ـــ البحرُ: سمندر کا مواج ہونا۔ ـــ الشبکۃَ علی الصید: شکار کے لئے جال بچھانا۔ ـــ المرأۃُ قناعها علی وجهها: عورت کا چہرے پر نقاب ڈال لینا۔ اِغْدَوْدَفَ اللیلُ: رات کا آ جانا اور تاریکی چھا جانا۔ الغادِف: ملاح۔ الغادُوف: چپو۔ کشتی چلانے کی لکڑیاں الغُداف جمع غِدفان: سیاہ اور لمبے بال، پرندہ کا سیاہ بازو۔ (ح): پہاڑی کوا۔ (ح): گدھ کی طرح کا ایک پرندہ۔ الغُدافِی: سیاہ بالوں کے رنگ کا، سیاہ بالوں والا کہا جاتا ہے۔ لیلۃٌ غُدافیۃُ الاِهاب: تاریک رات۔ المِغْدَف: چپو۔

۳۔ الغِدَفْل جمع غَدافِل: لمبا تڑنگا۔ بڑے ڈیل ڈول کا اونٹ۔ بوسیدہ کپڑا۔

○ غُدْفۃ جمع غُدَف: عورتوں کا سرکا رومال۔

غدق: غَدِقَ ـَ غَدَقًا المکانُ: جگہ کا بارش سے تر ہو جانا، سرسبز ہو جانا۔ غَدِق سرسبز جگہ۔ غَدِقَ ـَ غَدَقًا و اِغْدَوْدَقَ المطرُ: بارش کا خوب برسنا۔ ـــ ت عینُ الماء: پانی کے چشمے کا گہرا اور شیریں ہونا۔ غَدِقۃ شیریں چشمہ۔ اَغْدَقَ المطرُ: بارش کا خوب برسنا۔ ـــ العیشُ: معیشت کا فراخ ہونا ـــ ت الارض: زمین کا سرسبز ہونا۔ الغَدَق (مص): بہت پانی۔

○ غَدِقَ ـَ غَدَقًا: (بارش کا) شدید ہونا، زوروں سے پڑنا، برسنا، کثرت سے ہونا۔ اَغْدَقَ بمعنی غَدِقَ نیز اَغْدَقَ علی: کو سخاوت سے عطا کرنا۔ ـــ علی ہ: پر کی بوچھاڑ کرنا، بھرمار کرنا، کو فراخدلانہ (کچھ) دینا، عطا کرنا، پر کچھ نثار کرنا۔ غَدِق: (بارش پانی) وافر، فراوان کثیر، بہت۔ مُغْدِق بمعنی غَدِق

غدن: تَغَدَّنَ الغصنُ: ٹہنیوں کا جھومنا۔ اغدَوْدن

الرجلُ: پاؤں کا ڈھیلا پڑنا، گر پڑنا۔ ــــ النبتُ: پودوں کا ہرا بھرا ہونا اور آبپاشی کی زیادتی کی وجہ سے سیاہی مائل ہونے لگنا۔ ــــ الشعرُ: بالوں کا لمبا اور گھنا ہونا۔ غَدَوْدَن: لمبے اور گھنے بالوں والا۔ الغَدَن: نیند، اونگھ، ڈھیلا پن، ضعف۔ والغُدُنة: نرمی۔نعمت۔ الغُدَانی: نازک بدن، جوان۔ غُدانیُّ الشباب: تر وتازہ جوان۔ المُغْدَوْدِن: نازک بدن جوان۔

۲۔ الغِدان: وہ شاخ جس پر کپڑے لٹکائے جاتے ہیں۔

○ اِغْدَوْدَنَ: بالوں کا لمبا اور بہ افراط ہونا۔ غَدَن: غنودگی، ماندگی، تھکاوٹ، تھکن، ڈھیلا پن۔لنگڑا پن۔ غُدُنة: بمعنی غَدَن۔ غِدَان: کپڑے ٹانگنے کی کھونٹی مُغْدَوْدِن گھنے اور لمبے (بال)۔

غدو: غَدَا ـُ غُدُوًّا: صبح کو جانا۔ (مطلقا) جانا۔ صَارَ کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ ــــ غُدُوًّا و غُدْوَةً و اغتدی علیه: کے پاس صبح سویرے پہنچنا۔ غَدِیَ ــــ غَدًا و تغدّی: ناشتہ کرنا کہا جاتا ہے: ھل لك ان تتغدّی به قبل اَن تتعشّی بنا: یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں ہلاک کرنے سے پہلے اسے ہلاک کرو۔ غَدَّیَ الرجُلَ: کو صبح کا کھانا کھلانا، کو ناشتہ کرانا۔ غَادَی مُغَادَاةً الرجُلَ: کسی شخص کے پاس سویرے پہنچنا، الغادِی (فا): شیر الغادیة جمع غَوَادٍ و غَادِیات: غادی کا مونث۔ صبح کے وقت آنے والا بادل، صبح کی بارش، الغَدُ (نسبت غَدِی و غَدَوی): کل (آئندہ)، دن جو دور ہو مگر اس کا انتظار ہو۔ الغَدَاء جمع اَغْدِیَة: ناشتا (اس کا مقابل العشاء ہے)۔ مولّدون: اسے دوپہر کے کھانے کے معنی میں لیتے ہیں۔ الغُدْوَة جمع غُدًی و غُدُوّ والغداة جمع غدوات والغدِیَّة جمع غَدَایَا و غَدِیَّات: وقت صبح، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت۔ دن کے شروع کا حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ ھو ابنُ غَدَاتَین: وہ دو دن کا (بچہ) ہے۔ الغَدْیَان م غَدْیا: صبح کا کھانا کھانے والا۔ الغُدَیَّة: الغداة کی تصغیر۔ المَغْدَی والمَغْدَاة: صبح کے وقت جانے کی جگہ، کہا جاتا ہے: ماترك من ابیه مَغْدًی ولا مراحًا و مَغْدَاةً ولا مَرَاحةً: اس نے اپنے والد سے مشابہت کی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔

○ غدا ـُ غُدُوًّا و غَدْوَةً: جانا۔ صبح سویرے جانا، روانہ ہونا، آنا، کرنا یا ہونا: بھاگنا۔ ــــ ہ: کچھ ہو جانا۔ کچھ بن جانا، میں تبدیل ہو جانا، غَدَا و رَاحَ: آنا جانا، آگے پیچھے یا ادھر ادھر جانا یا ٹہلنا۔ غَدِیَ ـَ غَدًا ناشتہ کرنا، صبح کا کھانا تناول کرنا۔ غَدَّی ہ: کو ناشتہ کرانا، صبح کا کھانا کھلانا، کو ظہرانہ دینا، دوپہر کا کھانا دینا۔ غَادَہ: کے پاس صبح سویرے جانا، یراوحھا و یغادیھا: وہ اکثر یا بار بار اس خاتون کی ملاقات کو جاتا رہتا ہے۔ تَغَدّی: ناشتہ کرنا۔ ظہرانہ تناول کرنا، صبح کا کھانا کھانا، دوپہر کا کھانا کھانا۔ غد: اگلی صبح، اگلا دن غَدًا: کل (آئندہ) آئندہ (کسی دن) مستقبل میں کسی وقت فی غدٍ، من غدٍ: اگلے دن، کل (آئندہ) فی الغد: کلّ (آئندہ)، آئندہ کسی دن بعد غدٍ: پرسوں (آئندہ) فی ذاتِ غدٍ: آئندہ کسی دن۔ غداء جمع اغدیة: ناشتہ، ظہرانہ، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا۔ غَدَاة جمع غَدَوات: صبح سویرے، علی الصبح الغداة: آج صبح غُدْوَة جمع غُدًی: صبح سویرے۔ غَدْوَة جمع غَدَوات: ظہرانہ، دوپہر کا کھانا، صبح کے وقت سندیسے کا سفر۔ غدواتهُ وروحاته: اس کا آنا جانا مَغْدًی: وہ جگہ جہاں کوئی صبح کو جائے۔ مَغْدًی و مَرَاح: وہ جگہ جہاں اکثر آنا جانا رہتا ہو۔ مقصد جس کی آرزو اور تمنا کی جائے۔

غذّ: غَذَّ ـُ غذّی الشیءَ: کو ناقص کر دینا۔ ــ الجرحُ: زخم سے پیپ، خون اور پانی وغیرہ کا بہہ پڑنا۔ اَغَذَّ اِغْذَاذًا السیرَ و فی السیر: تیز چلنا۔ ــ الجرحُ: زخم سے پیپ اور فاسد مادہ نکل پڑنا۔ اَغَذَّ اِغْذَاذًا السیرَ او فی السیر: چلنے میں جلدی کرنا۔ الجرحُ: زخم سے خون پیپ جاری ہونا۔ الغاذ (فا): آنکھ کی رگ جو ہمیشہ جاری رہتی ہے، حس۔ الغَذِیْذَة: زخم کا فاسد مادہ پیپ کچھ لہو اور پانی۔

○ غَذَّ ـِ غَذًّا و اَغَذَّ: زخم خراب ہو جانا زخم میں پیپ پڑ جانا، زخم کا ناسور بن جانا، زخم کا پکنا۔ اَغَذَّ: جلدی کرنا، تیز چلنا۔ اَغَذَّ فی السیر تیز دوڑنا، جلدی کرنا، تیز چلنا۔

غذم: غَذَمَ ـُ و غَذِمَ ـَ غَذْمًا و اغتذم الشیءَ: کو بڑی بے صبری سے کھانا۔ اغْتَذَمَ الفَصِیلُ مافی ضرعِ اُمِّهِ: بچھڑے کا ماں کے تھنوں سے سارا دودھ پی جانا۔ تَغَذَّمَ الشیءَ: کو بڑی بے صبرے کھانا۔ ــــ الفصیل مافی ضرع امه: بچھڑے کا ماں کے تھنوں سے سارا دودھ پی جانا۔ الغُذَم: بہت کھانے والا، پیٹو، جو ملے کھا جائے۔ الغُذُمَة و الغَذَمَة جمع غَذَم: دودھ کی کثیر مقدار بئر غَذِیْمَةٌ: بڑا کنواں۔ المُتَغَذِّم: بہت کھانے والا، پیٹو، جو ملے کھا جائے۔

۲۔ غَذَمَ ـُ غَذْمًا له من المال کو مال کی خاصی مقدار دینا۔ الغُذْمَة جمع غُذَم مال کا ایک حصہ۔

۳۔ غَذْمَرَ غَذْمَرَةً [illegible] ہونا۔ تغذمر فی المجلس: مجلس میں غصہ سے چیخنا۔ الغَذْمَرَة (مص) جمع غَذَامِیر: شوروغل، چیخ و پکار، ڈانٹ ڈپٹ۔

۴۔ غَذْمَرَ غَذْمَرَةً الشیءَ: کو متفرق کر دینا، کو باہم ملا دینا، خلط ملط کر دینا، اندازہ سے فروخت کر دینا۔

غذو: ا۔ غَذَا ـُ غَذْوًا الرجلَ بالطعام: کو کھانا دینا۔ ــ الطعامُ الصبیَّ: کھانے کا بچے کو سیر کر دینا۔ غَذَّی تَغْذِیَةً الرجُلَ: کو خوراک دینا، کی پرورش کرنا۔ تَغَذَّی تَغَذِّیًا و اِغْتَذَی اِغْتِذَاءً: غَذّی اور غَذَا کا فعل مطاوع یعنی کھانا دیا جانا، پرورش پانا۔ الغِذَاء جمع اَغْذِیَة: وہ کھانے پینے کی چیز جس سے بدن کی پرورش ہو۔ الغاذِی جمع غُذاة و غاذُون م غاذِیه جمع غَوَاذٍ (فا)، غاذِی المال: مال کا انتظام واصلاح کرنے والا۔ الاَغذی: زیادہ کھانے اور کھلانے والا۔ الغَذِیّ جمع غِذاء: چھوٹے مویشی ــــ و الغَذَوِی: حاملہ جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہو یا صرف بکریوں کے پیٹ میں جو کچھ ہو۔

۲۔ غذا ـُ غَذْوًا الرجلُ: تیز چلنا۔ الفرسُ: گھوڑے کا تیزی سے گزرنا۔ اِسْتَغْذَی اِسْتِغْذَاءً الرجُلَ: کو شدت سے زمین پر گرا دینا، پچھاڑ دینا۔ الغَذَوَان: سخت توانا اور تیز رفتار گھوڑا۔

۳۔ غَذَا ـُ غَذْوًا العِرقُ: رگ سے خون بہہ پڑنا۔ غَذَّی تَغْذِیَةً العرقُ: رگ سے خون بہہ پڑنا۔

۴۔ الغَذَوَان: سخت زبان دراز۔

○ غذا ـُ غَذْوًا ہ ب: کو کچھ کھلانا، کو کچھ بطور غذا پہنچانا، کی سے تربیت کرنا، غَذَّی ہ ب: کو کچھ کھلانا، کو کچھ بطور غذا دینا، کی سے تربیت کرنا۔ ــ ہ ب: کو کچھ فراہم کرنا، مہیا کرنا، کو سے زندہ رکھنا۔ ــ ب: کو پھر سے بھرنا، میں ٹھونسنا۔ تَغَذَّی ب: کچھ کھانا، بطور غذا کچھ حاصل کرنا۔ سے تربیت پانا، پر یا کے سہارے، زندگی بسر کرنا یا زندگی گزارنا۔ کو کھا کر بسر کرنا۔ سے بھر جانا سے آراستہ ہونا۔ (برقی قوت وغیرہ) سے غذا حاصل کرنا۔ اِغْتَذَی: غذا حاصل کرنا تربیت پانا۔ غَذْو: غذا، پہنچانا غذائیت۔ تربیت، غِذا، تغذیه؛ غِذاء جمع اَغْذِیَة: خوراک، تربیت، اولاد۔ غذائیت والی خوراک۔ تغذیه۔ اَغْذِیَة: اشیاء خوردنی، کھانے پینے کی اشیاء، خوراک، غِذائِی غذائی، غذائیت والی، مواد غِذَائِیة: اشیاء خوردنی، کھانے پینے کی چیزیں، خوراک تغذیہ: تغذیہ: خوراک، غذا، غذائیت، بیٹری چارجنگ۔

غر: ا۔ غَرَّ ـُ غَرًّا و غِرَّةً و غُرُورًا ہ: کو دھوکا دینا، باطل کی رغبت دلانا۔ ماغَرَّكَ بفلان: تو نے اس کے

خلاف کیسے جرأت کی۔ غـرًّا و غـرارًا: غافل ہوجانا، لاپرواہوجانا۔ ـــ غرًّا و غرارۃً: تجربہ کار یا عاقل ہونے کے بعد بچوں کا سا رویہ اختیار کرنا۔ غـرِرَ ـــ غرارۃً: غافل ہوجانا، بے پرواہ ہوجانا۔ غرَّرَ تغریرًا و تغِرّۃً بالشیٔ: کے لئے تباہی کا سامان کرنا، کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اِغتَرَّہُ: کی غفلت کا طالب ہونا، کے پاس اس کی بےخبری میں آجانا۔ ـ بکذا: سے دھوکا کھانا۔ اِستَغرَّ بکذا: سے دھوکا کھانا۔ ـہٗ: کی غفلت اور بےخبری میں اس کے پاس پہنچ جانا۔ الغارُّ (فا) م غارّۃٌ: غافل۔ الـغـرّار: بہت دھوکا دینے والا (فک): صبح کا ستارہ۔ الغَرارۃ: غفلت، نوعمری، کان ذلك علی غرارتی: یہ میری نوعمری میں ہوا۔ الغِرّ ج اَغرار: ناتجربہ کار جوان۔ مؤنث: غِـرّ و غِـرّہ۔ الغِرّۃ (مص) جمع غِـرَر: غفلت، ناتجربہ کاروں کا گروہ۔ الغَرَر: ہلاکت کے درپے۔ کہا جاتا ہے۔ انا غرَرٌ منك: میں تمہارے بہلاوے میں آیا ہوا ہوں۔ الغَرُور: دھوکے کا ذریعہ۔ دنیا اور دنیا کی صفت بن کر بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں۔ الدنیا الغرور: دنیا دھوکے کا ذریعہ ہے۔ الغُرُور (مص): بیہودہ باتیں۔ الغَرِیر جمع اَغِرّۃ و اَغِرّاءُ م غریرۃ جمع غریرات و غرائر: فریب خوردہ۔ ناتجربہ کار جوان المَغرُور (مفع): باطل کے سبز باغ دکھایا ہوا۔ خود بین، فریب خوردہ دولت علم حسن وغیرہ پر گھمنڈ کرنے والا۔

۲۔ غـرَّ ـُـ غـرًّا و غِرارًا و ـ ـ غَرارۃً: عزت و شرف والا ہوجانا۔ الغُرّۃ من القوم جمع غُرَر: قوم کا عزت و شرف والا شخص۔ الاَغرّ م غرّاء جمع غُرّ و غُرّان: اچھے افعال والا۔ سردار، شریف۔

۳۔ غرَّ ـ غرَرًا و غُرّۃً و غرارۃً الوجہُ: چہرے کا حسین اور روشن ہوجانا۔ ـ الشیٔ: سفید ہوجانا۔ غرَّرَ تغریرًا و تغِرّۃً ت ثنیۃ الغلام: بچہ کا دانت اول اول نکلنا۔ تـغـرّرَ الفرسُ: سفید پیشانی والا ہونا۔ الغُرَر: مہینہ کی پہلی تین راتیں۔ الـغُـرّۃ جمع غُـرَر: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔ ـ من کل شیٔ: ہر چیز کا ابتدائی اور بڑا حصہ۔ ـ من الرجل: چہرہ۔ روشنی یا صبح جو نظر آئے۔ الـغَرِیرُ جمع غُـرّان: اچھی عادت (کہا جاتا ہے: ادبر غریرہٗ و اقبل هزیرہٗ: کی اچھی عادت جاتی رہی اور بری عادت آگئی۔) عمدہ زندگی الاغرّ م غرّاء جمع غُرّ و غُرّان: خوبصورت ہر سفید چیز۔ ـ من الخیل: سفید پیشانی والا گھوڑا۔ ـ من الایام: سخت گرم دن۔

۴۔ غـرَّ ـُـ غـرًّا و غـرارًا الماءُ: پانی کا جذب ہوجانا۔

غِـرارًا و مُغارّۃً السوقُ: کساد بازاری ہوجانا۔ ـ التحیّۃ: سلام کم کرنا۔ ـ ت الناقۃُ: اونٹنی کا دودھ کم ہوجانا۔ الغِرار جمع اَغِرّۃ: کساد بازاری، اونٹنی کے دودھ کی کمی۔ تھوڑی سی نیند یا کوئی اور تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے: اتـانـا علی غِرار: وہ ہمارے پاس جلدی میں آیا۔ الـمُـغارّ جمع مَـغارّ: تھوڑے دودھ والی اونٹنی۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مُغارُّ الکف: فلاں شخص بخیل ہے۔

۵۔ غـرَّ ـُـ غـرًّا و غِرارًا الطائرُ فرخَہٗ: پرندہ کا اپنے بچے کو چوگا دینا۔ ـ الراعی: چرواہے کا اپنے اونٹ چرانا۔

۶۔ غـرَّ ـُـ غـرًّا و غِرارًا الرجلُ: جنگلی مرغی کھانا۔

۷۔ غـرَّ ـُـ غـرًّا و غِـرّۃً و غُرُورًا الماءَ: پانی ڈالنا۔ غرَّرَ تغریرًا و تغِرّۃً القربۃَ: مشک بھرنا۔ الغِرارۃ جمع غرائر: بورا، تھیلا۔

۸۔ غـرَّرَ تـغـریـرًا و تغِرّۃً الطائرُ: پرندہ کا اڑنے کے لئے پرتولنا۔

۹۔ الغارّ م غارّۃ: کنواں کھودنے والا۔ الغَرّ جمع غُرُور: زمین کا شگاف، کپڑے یا کھال کی شکن (کہا جاتا ہے: طویتُ الثوبَ علی غرّہ: میں نے کپڑے کو پہلی شکن پر تہہ کر دیا۔) زمین میں پتلی سی نہر۔ تلوار کی دھار۔ الغِرار: تلوار کی دھار: تیر بنانے کا نمونہ۔ کہتے ہیں۔ ھـم عـلـی غِرارٍ واحد: وہ ایک ہی طرز و نمونہ کے ہیں۔ ولَـدَت ثـلاثـۃً بنین علی غِرار: عورت نے پے درپے تین بچے جنے۔ لبـث الـقـوم غرارَ شهر: لوگ ایک ماہ ٹھہرے۔ الـغُرّۃ جمع غُرَر: غلام، لونڈی (ح): ایک آبی پرندہ جو نرسل سے ڈھکی ہوئی دلدلوں میں رہتا ہے۔ الغُرّان: پانی کے بلبلے کہا جاتا ہے: اقبل الماءُ بغُرّانه: پانی اپنے بلبلوں کے ساتھ آیا۔ الغَرُور: غرغرہ کرنے کی دوائیاں الـغَـرِیر ج اَغِرّۃ و اَغِرّاءُ م غریرۃ جمع غریرات و غرائر: کفیل۔ الغُرَیر (ح): کتے سے چھوٹا بلّی سے بڑا بھورے رنگ کا ایک جانور۔ عرب کہتے ہیں: اسمن من غُرَیر: اس کو بغر اور غُرغور بھی کہتے ہیں۔

۱۰۔ غرغرَ غرغرۃً: غرغرہ کرنا۔ ـ ت القدر: ہانڈی کا جوش کے وقت آواز نکالنا۔ ـ ہٗ: کو ذبح کرنا۔ ـ ہ بالرمح: کے حلق میں نیزہ مارنا۔ ـ الرجلُ: گلوگیر آواز نکالنا۔ موت کے وقت غرغر کی آواز نکالنا۔ ـ اللحمُ: بھونتے وقت گوشت سے آواز نکلنا۔ تغرغرَ بالماء او الدواء: پانی یا دوا سے غرغرہ کرنا۔ تغرغرت العینُ بالدمع: آنکھ میں آنسو کا ڈبڈبانا۔

۱۱۔ الغِرغِر جمع غِرغِرۃ (ح): جنگلی مرغی۔ الغُرغُرۃ: پرندے کا پوٹا۔ پیشانی کی سفیدی۔ فلانٌ غُرغُرۃ: فلاں شخص شریف ہے۔ الـغـرغُـور (ح): دیکھو غُرَیر۔

○ غـرَّ ـُـ غُـرُورًا ب: کو گمراہ کرنا، دھوکا دینا، سے دھوکے سے کام کرانا۔ ـ ہٗ: کو دھوکا دینا، سے دھوکے سے کام کرانا، کو بہکانا، کو سبز باغ دکھانا، کو فریب دینا، جل دینا، کو خیرہ کرنا، اندھا کرنا۔ غَـرَّرَ ب: کو دھوکا دینا، بہکانا، خیرہ کرنا، اندھا کرنا، کو للچانا، سبز باغ دکھانا، موہ لینا، لبھانا، اکسانا، ترغیب دینا، گمراہ کرنا، ورغلانا، پھسلانا، کو خطرہ میں ڈالنا۔ غرَّرَ بنفسہ: اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالنا، اپنی زندگی کو خطرہ میں ڈالنا۔ اِغتَرَّ ب: سے چندھیا جانا، اندھا ہوجانا، بیوقوف بن جانا، بہک جانا، گمراہ ہو جانا، سے دھوکا کھانا، میں یا کے بارے میں غلطی کرنا۔ اِغتَرَّ: مغرور ہونا، متکبر ہونا، خود پسند ہونا یا ہوجانا۔ اِستَغَرَّہٗ: کے پاس غیر متوقع طور پر آنا، کو اچانک جالینا یا کے پاس اچانک پہنچ جانا، کو حیران کر دینا۔ بھونچکا کر دینا۔ غَرّ: تلوار کی (کاٹ دار) دھار۔ غِـرّ جمع اَغـرار: ناتجربہ کار، سادہ لوح، دھوکا کھا جانے والا، نیا، سبز، ہرا، کچا، اناڑی، فریب خوردہ، غافل، بے پرواہ، توجہ نہ کرنے والا، غُـرّۃ جمع غُرَر: گھوڑے کے چہرے پر سفید داغ، بہترین، عمدہ ترین، اول نمبر (کسی چیز کا) روشن ترین حصہ یا پہلو۔ غُرّۃ الشهر: مہینے کا پہلا دن فی غُرّۃ العام: سال کے شروع میں۔ غِـرّۃ: بے پرواہی، غفلت، عدم توجہ، بے توجہی کا لمحہ، نادانستگی، بے پروائی کا لمحہ۔ عـلـی غِرّۃٍ یا علی حین غِرّۃٍ: غیر متوقع طور پر۔ اچانک، نادانستہ، حیرت انگیز طور پر، عجیب طور پر، اخذ علی (حین) غِرّۃٍ: بےخبری میں گرفت میں آجانا۔ اچانک جالیا ہونا، حیران کیا گیا ہونا، بھونچکا ہوجانا، غَـرَر: خطرہ۔ غُرُور: دھوکا، فریب، دغابازی، فریب خوردگی، پاکھنڈ، ڈھکوسلا، داؤں، مغالطہ، وسوسہ، وہم، خیال، فریب نظر، موہوم پیکر، مایا، گمان، تکبر، خود پسندی، حد سے زیادہ غرور، امارت پرستی، سراب، بے اصل باتیں، معمولی سی چیزیں، باتیں، خطرہ۔ الغرور بنفسہ: خود فریبی۔ غَرُور: مغالطہ اور دھوکے میں ڈالنے والی (چیز) پُر فریب، مغالطہ آمیز، وہمی، غیر حقیقی، غَـرِیر: فریب خوردہ، گمراہ، اکسایا ہوا، ترغیب دیا ہوا جمع اَغِـرّاء: ناتجربہ کار، معصومانہ، صاف دل، بے تصنع، سادہ لوح، دھوکا کھا جانے والا۔ غِـرار: تلوار کی (کاٹ دار) دھار۔ علی غرارٍ و غِرارًا: عجلت میں، جلدی جلدی

تیزی سے، علی (من) غِرار: کی طرح، جیسا، کے اندازکا، کے نمونہ پر۔ علی هذا الغرار: اسی طرح علی غِرار واحدٍ: کے نمونہ کا، اسی طرح، اسی انداز سے، یکساں، ایک سا، ایک ہی طرح۔ غَرّار: مغالطہ یا دھوکے میں ڈالنے والی (شے) پرفریب، مغالطہ آمیز غَرارة: خودغرضی، بے پرواہی، غفلت، بے مروتی۔ علی غرارَة: کے نمونہ پر، کی طرح، غِرارَة: بورا اَغَرّ م غَرّاء جمع غُرّ: سفید پیشانی والا (گھوڑا) خوبصورت، خوش شکل، فراخ دل، سخی، فیاض، شریف، موقر، قابل احترام۔ اغر محَجَّل: منفرد، بے مثال، فقید المثال، مَغرُور: فریب خوردہ، بیوقوف بنایا ہوا، گمراہ، اکسایا ہوا، ترغیب دیا ہوا، بہکایا ہوا، سبز باغ دکھایا ہوا، چندھیا ہوا، اندھا، خودبیں، خودنما، خودپسند، مغرور، متکبر، امارت پرست سا۔

غرب: ا۔ غَرَبَ ـُ غَرْبًا جانا۔ فلانٌ عنا: سے جدا ہونا، علیحدہ ہونا۔ ـ فی سفره: دور کا سفر کرنا۔ ـــ غُرُبًا الرجُلُ: دور ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ اُغرُبْ عَنّی: مجھ سے دور ہو۔ ـ غُربَةً و غُرُبًا و غَرابَةً: وطن سے جدا ہونا، پردیسی ہونا۔

غَرَّبَ: دور ہونا، وطن سے جدا ہونا، غَـرَّبَـهُ: کو دور کرنا، علیحدہ کرنا، کو مسافرت پر اکسانا، جلاوطن کرنا۔ ـــ فی الارض: میں دور تک جانا۔ اَغرَبَ: ملک میں دور تک گھس جانا۔ ـــ ہٗ: کو علیحدہ کرنا۔ تَغَرَّبَ: وطن سے نکلنا۔ اِغترَبَ: وطن سے نکلنا، غیر اقارب میں شادی کرنا۔ الغَرب جمع غُرُوب: دوری۔ الغُرب: اجنبی، پردیسی۔ الغَربَة: دوری۔ غُراب نوح: جس سے اس شخص کی مثال دی جاتی ہے جو کھو جائے اور واپس نہ آئے۔ الغَرِیب جمع غُرَباء: وطن سے دور۔ رجُلٌ غَرِیب: ناواقف غیر مانوس دوسری قوم کا عَنقاء مُغرِبٌ و مُغرِبَةٌ: ایک فرضی پرندہ۔

۲۔ غَرَبَ ـُ غُرُوبًا النجمُ: ستارہ کا غروب ہونا غَرَّبَ: مغرب میں پہنچنا۔ اَغرَبَ: مغرب میں جانا۔ تَغَرَّبَ: مغرب کی طرف سے آنا۔ الـغَـرب جمع غُـرُوب (فلك): مغرب، سورج غروب ہونے کی سمت۔ المَغرِب: سورج غروب ہونے کی جگہ، افریقہ کا ایک ملک۔ المُغرَب: صبح المَغرِبی جمع مَغارِبَة: مغرب کا باشندہ مَغرِبانُ الشمس: جہاں سورج غروب ہو۔

۳۔ غَرُبَ ـُ غَرابَةً الکلامُ: کلام کا غیر واضح اور پیچیدہ ہونا۔ الشیئُ: غیر مانوس ہونا۔ اَغـرَبَ: نوادرات بیان کرنا۔ فصیح ہونا۔ ـــ علیه و به: کے ساتھ مکروہ دھوکا کرنا۔ اِستَغرَبَ الشیَٔ: کو عجیب پانا یا سمجھنا۔ کہا جاتا ہے: سهمُ غَرَبٍ و غَرَبٌ و سهمٌ غَرْبٌ و غَـرَبٌ: وہ تیر جس کے چلانے والا کا پتہ نہ ہو۔ الغَرِیب جمع غُرَباء: عجیب، غیر مانوس۔ ـــ م غَرِیبَة جمع غَرائِب من الکلام: دور از فہم کلام۔

۴۔ غَرِبَ ــَ غَرَبًا: بادِ سموم سے سیاہ چہرے والا ہونا۔ الغَرَب (ن): درخت الغُراب جمع اَغرُب و غُرُب و غِربان و اَغرِبَة و جج غَرابِین (ح): کوا، سیاہی، دوری، صبح اٹھنے اور چوکس رہنے میں کوے کی مثال دی جاتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ بَکَرتُ بُکُورَ الغُراب: میں کوے کی طرح صبح سویرے اٹھا۔ دون هذا شیبُ الغُراب: کوے کی سیاہی اس سے کم ہے۔ فلانٌ اَحذَرُ من الغراب: فلاں شخص کوے سے زیادہ چوکنا اور چوکس ہے۔ ارضٌ لایطیر غُرابُها: بہت پھلدار زمین۔ طارَ غُرابُه: وہ بوڑھا ہوگیا۔ غُرابُ الزرع (ج): کوے کی قسم کا ایک پرندہ، جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے جو کھنڈرات وغیرہ میں سکونت رکھتا ہے۔ اَغرِبَةُ العَرَبَ: عرب کے سیاہ لوگ۔

۵۔ اَغرَبَ: اچھی حالت میں ہونا۔ ـــ الحوضَ: حوض بھرنا۔ الغَرَب: سونا، چاندی، پیالہ، شراب۔

۶۔ اَغرَبَ فی الضحِك و نحوه: بہت ہنسنا۔ ـــ الفرسُ فی جریه: گھوڑے کا بہت دوڑنا۔ ـ الفرسَ: گھوڑے کو دوڑا دوڑا کر مارنا۔ ـ و اُغرِبَ المریضُ: بیمار کا درد تیز ہونا۔ اِستَغرَبَ و اُستُغرِبَ فی الضحك: بہت ہنسنا۔ الغَرب ج غُرُوب: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔

۷۔ اِستَغرَبَ الدمعُ: آنسو بہنا۔ الغَرب جمع غُرُوب: ہمیشہ جاری رہنے والی آنکھ کی رگ۔ آنسو۔ آنسو بہنے کی جگہ۔ آنکھ کا اگلا حصہ۔ آنکھ کا پچھلا حصہ، آنکھ کی پھنسی، گوشہ چشم کا ورم، تھوک کی کثرت، بڑا ڈول۔ الغَرَب: پانی جو کنویں اور حوض کے درمیان ڈول سے ٹپکے کہا جاتا ہے۔ بعینه غَرَبٌ: اس کی آنکھ سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔

۸۔ الغارِب جمع غَوارِب (ع): کندھا یا کوہان اور گردن کے درمیان کا حصہ۔ ہر چیز کا اوپر کا حصہ۔ غوارِبُ الماء: بلند موجیں۔ الغَرب جمع غُرُوب: ہر چیز کی ابتداء۔ دھار، سرگرمی و تیزی، کہا جاتا ہے: انـــی اخاف علیك غَربَ الشباب: میں تمہاری جوانی کی تیزی اور سرگرمی سے ڈرتا ہوں۔ الغَراب: اولہ۔ برف، سر کا پچھلا حصہ۔ قدیم زمانہ کی ایک کشتی۔ ـ من کل شیٔ: ہر چیز کا شروع، دھار جیسے غراب الفأس (کلہاڑی کی دھار) رِجلُ الغراب (ن): بوٹی، جڑی بوٹی، الغُرابان (ع): دونوں سرینوں کے نچلے حصے جو رانوں سے ملتے ہیں۔ المُغرَب: صبح۔ ہر سفید چیز یا سفید کناروں والی شے۔

۹۔ الغِربیب: بہت سیاہ۔ اکثر تاکید کے طور پر آتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں: اَسوَدُ غِربِیب: کالا کلوٹا۔

۱۰۔ غَربَلَ غَربَلَةً الحنطة: گیہوں چھاننا۔ (مولدین کے ہاں نخل آٹے کے لئے اور غربلة اناج کے لئے استعمال کیا جانا مشہور ہے۔ البلدَ: ملک کے باشندوں کی حالت کی چھان بین کرنا۔ ـــ الشیَٔ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الگ الگ کرنا۔ القومَ: قوم کو قتل کرنا اور کچل ڈالنا۔ ـــ فی الارض: زمین میں جانا۔ الغِربال جمع غَرابِیل: چھلنی، دف، چغل خور۔ المُغربَل (مفع): گھٹیا۔ مقتول جو پھول گیا ہو، زوال پذیر ملک۔

○ غَرَبَ ـُ غَربا عن: سے دور جانا، کو چھوڑ کر چلا جانا، سے غیر حاضر ہونا۔ ـــ عن: کو چھوڑنا، ترک کرنا، غَرَبَ ـُ غُروبًا: (سورج وغیرہ کا) غروب ہونا۔ غَرُبَ ـُ غَـرابَةً: اجنبی ہونا، عجیب و غریب ہونا، تاریک ہونا، غیر واضح ہونا، مبہم ہونا، دھندلا سا ہونا، مشکل ہونا، عسیر الفہم ہونا، پیچیدہ ہونا، غامض ہونا، لا یَغرُبُ عنك أن: آپ کے نوٹس میں یہ بات آئے بغیر نہیں رہی ہوگی کہ، آپ یقیناً اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ۔

غَرَّبَ: دور چلا جانا، چھوڑنا، ترک کرنا، روانہ ہونا، غیر حاضر ہونا، مغرب کی طرف جانا۔ ـہ: کو وطن سے نکال دینا، جلاوطن کرنا، نکال باہر کرنا، خارج کرنا۔ غَـرَّبَ و شَرَّقَ: زمین میں ہر طرف یا ادھر ادھر جانا، دنیا دیکھنا۔ اَغرَبَ: کوئی عجیب اور حیران کن بات کہنا یا کوئی عجیب اور حیرت انگیز کام کرنا۔ ـفی: میں مناسب حدود سے تجاوز کرنا، میں مبالغہ کرنا، کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، میں مبالغہ سے کام لینا، اَغرَب فی الضحك: چلا کر ہنسنا، جوش و خروش سے ہنسنا، قہقہے مار کر ہنسنا۔ تَغَرَّبَ: کسی اجنبی ملک میں جانا، ترک وطن کر کے جانا، اپنے وطن سے (بہت) دور ہونا، مغربی یا فرنگی ہو جانا، آپنے آپ کو مغربی یا یورپی رنگ میں رنگ لینا، اپنے آپ کو مغربی طرز زندگی میں سمو لینا۔ اِغتَرَبَ: کسی اجنبی ملک میں چلا جانا، ترک وطن کر لینا، اپنے وطن سے (بہت) دور ہونا۔ اِستَغرَبَ ہ: کو عجیب یا غیر معمولی پانا۔ کو بیہودہ خیال کرنا، لچر سمجھنا، مضحکہ خیز جاننا، ناپسند کرنا استغرب: مغربی یا فرنگی ہو جانا، اپنے آپ کو مغربی یا یورپی رنگ میں رنگ لینا، اپنے آپ کو مغربی طرز

زندگی میں سمولینا۔ استغرب فی الضحك: چلا کر ہنسنا، جوش وخروش سے ہنسنا، قہقہہ مار کر ہنسنا،

غَرْب: مغرب، پچھم، مغربی ممالک، مغربی تہذیب، تشدد، شدت جوش، سختی، ہنگامہ خیزی۔ الـغـرب: مغرب، مغربی ممالک، مغربی تہذیب، غَربًا: مغربی طرف، مغربی جانب۔ فَلَّ غَرْبَہٗ: کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، افسردہ کرنا۔ غَربًا بجنوب: جنوب مغربی طرف، جنوب مغرب کی طرف غربی: مغربی، مغربی ممالک یا تہذیب کا مغربی ملکوں کا باشندہ، الغربیون: مغربی کلیسا۔ غُربَۃ: وطن سے غیر حاضری، آبائی ملک سے علیحدگی، جلا وطنی، وطن سے دور زندگی یا جگہ۔

غُراب جمع غِربان واَغْرُب و اَغْرِبَۃ: کوا، پہاڑی کوا، پھل (خصوصاً کلہاڑی کا) غَرِیب جمع غُرَباء: عجیب، اجنبی، غیر ملکی، پردیسی، ـــ علی/عن: سے غیر متعلق، الگ، مختلف، جدا، علیحدہ مغریب: عجیب و غریب، انوکھا، غیر معمولی، نرالا، حیرت انگیز، حیران کن، پریشان کن، چونکا دینے والا، حواس باختہ کرنے والا، مضحکہ خیز، عسیر الفہم، غیر معروف (زبان) دور، شاذ، جمع اغراب: اجنبی، پردیسی، غیر ملکی، اغراب: غیر ممالک میں رہنے والے اپنے وطن سے دور لوگ،

غریب الاطوار: خبطی، موجی، متلون مزاج، پل میں تولہ پل میں ماشہ، من موجیا، لہری، سنکی، سڑی، مادۃً غـریبۃ: غیر متعلق جوہر، خارجی جرم۔ غـریبۃ جمع غرائب: انوکھا پن، عجیب، اور غیر معمولی چیز، تجسس، حیرت انگیز بات، یا چیز، اعجوبہ، حیرت انگیز، حیرت، حیرانی تعجب، غُرُوب: (سورج، ستاروں کا) غروب ہونا۔ غَرابۃ: انوکھا پن، نرالا پن، عجیب ہونا، یکتائی، اَغْرَب: زیادہ غیر معمولی، عجیب تر، زیادہ مختلف، زیادہ پردیسی، مَغرِب جمع مَغارِب: سورج غروب ہونے کی جگہ یا وقت، مغرب، مغرب کی نماز المغرب: مراکش، شمالی افریقہ مغرب الشمس: سورج غروب ہونے کا وقت شفق کی سرخی بلادُ المغرب: مغرب، شمالی افریقہ، مشارق الارض و مغاربُھا: کل دنیا المشرقان و المغربان: تمام دنیا فی المغربین و فی المشرقین: دنیا بھر میں، پوری دنیا میں مـغـربـی: شمالی افریقہ کا مغرب کا یعنی مراکش کا جمع مـغـاربۃ: شمالی افریقی، مغربی یعنی مراکشی (باشندہ) تغریب: دیس نکالا، جلا وطنی، تـغـرُّب: اپنے آبائی ملک سے علیحدگی، ترک وطن، مغربیت اِغتراب: آبائی وطن سے جدائی، ترک وطن، مغربیت۔ اِستغراب: حیرت، تعجب، اچنبھا، استعجاب، حیرانی، حیرت کی بات، غارِب جمع غَوارِب: اونٹ یا گھوڑے کا کندھا یا کوہان اور گردن کے درمیان کا حصہ۔ حبال تـرك (القی) حبلـهُ علی غـاربہ: کو کھلی چھٹی دینا۔ مُغرَّب: جلا وطن، دیس سے نکالا ہوا، مُغترِب: اجنبی، پردیسی، وطن سے دور رہنے والا۔ مُستغرِب: مغربی تہذیب یا یورپی تہذیب میں رنگا ہوا۔ غربَل ہ: کو چھاننا، کو چھاج میں پھٹکنا، غِربال جمع غَرابیل: چھلنی، غَرابلی جمع غرابلیون و غرابلیۃ: چھلنیاں بنانے والا یا بیچنے والا۔

غرث: غَرِثَ۔ غَرَثًا: بھوکا ہونا، غَرثان جمع غَرثی و غَراثی و غِراث: بھوکا مونث غَرثی جمع غِراث، غَرِثَ الکلب: کتے کو بھوکا رکھنا۔ الغرث و الغارث: بھوکا۔

غرد: ۱۔ غَرِدَ۔ غَرَدًا و غَرَّدَ و تغرّدَ الطائرُ: پرندے کا چہچہانا گانا۔ اَغرَدَہُ الطائرُ: کو پرندے کا چہچہا کر خوش کرنا۔ اِستغرَدَہٗ: کو گانے پر اکسانا۔ الأُغرُود و الأُغرُودۃ جمع اغارید: پرندے کا گیت، الغرِد و الغرَد و الغرّید: گانے والا۔

۲۔ الـغـردینیا (ن): درخت کی ایک قسم، جس کے پتے ہمیشہ سبز رہتے ہیں اور پھول خوشبودار ہیں اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ سجاوٹ کے کام آتا ہے۔

○ غَرِدَ ـــ غَرَدًا و غَرَّد و تغرّدَ: پرندے کا گانا، چہچہانا، چیں چیں کرنا، سریلی آواز نکالنا۔ غَرَدٌ: پرندے کا گانا، چہچہانا، نغمہ، نغمہ طائر۔ غُرد جمع غُرُود: ریت کا ٹیلہ، جگہ بدلنے والا ریت کا ٹیلہ، غِرِّید: (پرندے کا گانا، چہچہانا، سریلی آواز نکالنا، چہچہاہٹ اُغرُودَۃ جمع اَغارِید: پرندے کا چہچہانا، گانا، سریلی آواز نکالنا۔ نغمہ طائر مُغرِّد: گانے والا، چہچہانے والا، سریلی آواز نکالنے والا (پرندہ) طـائـر مُغرِّد: گانے والا پرندہ۔

غرز: ۱۔ غَرَزَ۔ غَرْزًا ہُ بالا برۃ ونحوھا: کو سوئی وغیرہ چبھونا۔ الإبرَۃَ فی الشیٔ: کسی چیز میں سوئی داخل کرنا۔ ـــ عُودًا بالارض: زمین میں لکڑی گاڑنا۔ ـــ ت الجرادۃُ: ٹڈی کا زمین میں دم گاڑ کر انڈے دینا۔ صفت غارز وغارزۃ۔ غرّزَ الابرۃ فی الشی: کسی چیز میں سوئی داخل کرنا۔ ـــ ت الجرادۃُ: ٹڈی کا زمین میں دم گاڑ کر انڈے دینا۔ صف اَغرَزَ الإبرۃ بمعنی غرز ہ ـ الوادی: وادی کا غرز نامی پودا اگانا۔ اِغترَزَ فی الشی: میں داخل ہونا۔ الغرز جمع غُرُوز: زمین میں گاڑی ہوئی لکڑی۔ الـغـرز (ن): ایک چھوٹا پودا۔ عیونٌ غَوارِز: نہ بہنے والے چشمے۔ الـتـغـریـز: التغاریز کا واحد، کھجور کا پودا جو ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگایا گیا ہو المَغرِز جمع مَغارِز: گاڑنے کی جگہ

۲۔ غرَزَ ـــ غرزًا الراکبُ رِجلَهُ فی الغَرْز: سوار کا رکاب میں پاؤں رکھنا۔ اِغترزَ السیرُ: روانگی کا قریب ہونا۔ ـــ فلانٌ السیرَ: سوار ہونا، کی روانگی کا قریب ہونا۔ ـــ الراکبُ رجلَهُ فی الغرز: سوار کا رکاب میں پاؤں رکھنا۔ الغرْز (مص) جمع غُرُوز: رکاب۔ کہا جاتا ہے۔ اشدُدْ یدیك بغرزہ: اپنے آپ کو اسے مضبوطی سے پکڑے رکھنے پر آمادہ کر۔

۳۔ غرِزَ۔ غَرَزًا: نافرمانی کے بعد اطاعت کرنا۔ الغرز (مص): کہا جاتا ہے۔ اِلزَم غرزَ فلان: اس کے رکاب کو پکڑے رہو، اس کے فرمانبردار رہو۔ الغَریزۃ جمع غرائِز: طبیعت، فطرت۔

۴۔ غـرَّزَ الـغـنـم: بکری کا دودھ دوہنا چھوڑ دینا تا کہ وہ موٹی ہو جائے۔ الغارِزۃ: کم دودھ والی اونٹنی۔

○ غرَزَ ـــ غرزًا ہ ب: کسی چیز میں کوئی چیز (جیسے سوئی) چبھونا۔ ـــ ہ فی: کو میں گھسیڑنا، کو میں ڈالنا، کو میں داخل کرنا، کو میں چبھونا، کو میں گھونپنا، کو میں بھونکنا، کو میں ٹھونسنا، کو میں ٹھونس ٹھونس کر بھرنا، کو میں دھکیلنا، کو میں بونا، کو میں لگانا، کو میں رکھنا، گاڑنا، غـرَّزَ ہ فی: بمعنی غرَزَ ہ فی۔ اَغرز ہ فی بمعنی غرّزَ ہ فی۔ تـغـرَّزَ فی: کے آر پار ہونا، کو چیرنا، میں رکھا جانا، میں ڈلنا، میں داخل ہونا، میں گڑ جانا، اِنـغـرَزَ فی: کے آر پار ہونا، پر بہت اثر کرنا، میں سرایت کرنا، میں گھر کرنا، اِغترز فی: میں گہرائی تک جانا، پر اثر کرنا، میں رکھا جانا، میں ڈلنا، گڑ جانا۔ اِغترزَ السیرَ: اس نے روانگی کے لئے تیار ہو کر اپنا پاؤں رکاب میں رکھا، اس کی روانگی کا وقت نزدیک آ گیا۔ غـرْزَۃ جمع غُرَز: ٹانکا، بخیہ، چیبن، غرِیزۃ جمع غرائِز: طبیعت، فطرت، جبلت، وجدان، حیوانی عقل، ترنگ، جذبہ، غـریـزی: طبعی، پیدائشی، خلقی، قدرتی، اصلی، جبلی، فطری مَغرَز جمع مَغارِز: شوخی، عملی مذاق۔

غرس: ۱۔ غَرَسَ ـــ غَرسًا و غِراسۃً و اَغرَسَ الشجرَ: درخت کو زمین میں لگانا۔ اِنغرَسَ: درخت کا زمین میں لگانا۔ الـغرس (مص): جمع غِراس و اَغراس: لگایا ہوا (پودا) الغرس جمع اغراس جو چیز زمین میں لگائی جائے الغراس: لگایا ہوا پودا۔ لگانے کا وقت کہا جاتا ہے۔ هذا زمنُ الغِراس: یہ پودے لگانے کا وقت ہے۔ الغَرِیس: لگایا ہوا پودا۔ الغَرِیسۃ جمع غـرائِس و غِراس: نیا اگا ہوا کھجور کا پودا، بوئی ہوئی گٹھلی، کھجور کا پودا لگانے سے پھلدار ہونے تک)

المَغْرِس جمع مَغَارِس: پودہ لگانے کی جگہ۔

۲۔ الـغِـرسُ جمع اَغْـراس: پانی جو بچہ کے ساتھ رحم سے آئے۔ (ح) چھوٹا کوا۔ الغَرِيس (ح): بھیڑ۔

○ غَـرَسَ ـِـ غَـرْسًا ہ فی: کو میں لگانا کو میں ڈالنا، کو میں رکھنا، جڑنا، دھرنا، بٹھانا، میں بڑھانا، اَغْـرَسَ ہ بمعنی غَرَس اِنْغَرَسَ: پودا کا لگنا، میں بیٹھنا، غَرْس: لگایا ہوا (پودا) جمع اغراس و غِراس: ، پودا، داب، پنیری، ننھا پودا، تخمی پودا۔ غـرس جمع أغـراس: پودا، داب، پنیری، ننھا پودا، تخمی پودا۔ غِرْسَة: پودا۔ غِراس: پودا، پودے لگانے کا وقت، غِـراسَة: کاشت، اگنا۔ غِـراسَة الـزيتون: زیتون کے درختوں کی کاشت۔ غِراسَة الـعنب: انگوروں کی کاشت۔ غَرِيسة جمع غَرَائِس و غِراس: پنیری، داب، ننھا پودا، تخمی پودا۔ مَغْرِس جمع مَغَارِس: وہ جگہ جہاں کوئی چیز لگائی یا رکھی جائے، پودگھر، پودکیاری، درختوں والا رقبہ، باغات، کھیت، کیاری۔ مُغارَسَة جمع مُغـارسات: پھلوں کے باغ کا ٹھیکہ جس کی رو سے پٹہ پر لینے والا باغ کے نفع دینے کے بعد اس کے نصف کا مالک ہو جاتا ہے (تیونس) مُغارِسی جمع مُغارسون: باغوں کا ٹھیکہ لینے والا۔

غرش: الغُرش من المسكوكات جمع غُرُوش: ایک سکہ جو چالیس باروں کے برابر ہوتا ہے۔ (ترکی لفظ ہے اٹلی زبان کے کروسو یا جرمنی کے جرِوش سے لیا گیا ہے)۔

غرض: غَـرَضَ ـِـ غَرْضًا الإناءَ: برتن بھرنا، تھوڑا سا کم بھرنا۔ غَـرَّضَ فی سقاءِ ہٖ: مشک نہ بھرنا، کہا جاتا ہے۔ فـلان بحرلا يُغَرَّض: فلاں شخص نہ ختم ہونے والا سمندر ہے۔ اَغْرِض الاناءَ: برتن بھرنا۔

۲۔ غَرِض ـَـ غَرَضًا الشئَ: کو تازہ تازہ چننا، کو وقت سے پہلے کرنا۔ ـــ غَرِيضًا له: کو تازہ دودھ پلانا۔ غَرُضَ ـُـ غِـرَضًا اللحمُ: گوشت کا تازہ ہونا۔ صفت۔ غَـرِيض جمع اَغَـارِيض۔ غَـرَّضَ: تازہ گوشت کھانا۔ ـــ الشئَ: کو تازہ تازہ چننا، غَارَضَ الإبلَ: اونٹوں کو صبح کے وقت پانی پر لانا۔ اِغْتَـرَضَ فـلانٌ: جوان مر جانا۔ الغَارِض (فا): صبح کو پانی پر آنے والا۔ اَتيتـهُ غـارِضًا: میں اس کے پاس دن کی ابتداء کے وقت آیا۔ الـغَرِيض: بارش کا پانی، وہ پانی جس پر صبح سویرے آئیں۔ ہر سفید تازہ چیز۔ الاغـرِيض جمع اَغـارِيض: ہر سفید تازہ چیز۔ شگوفہ۔ الـمَـغْـرُوض (مفع): بارش کا پانی۔

۳۔ غَرَضَ ـِـ غَرْضًا الشئَ: کو اس طرح توڑنا کو جدانہ ہو۔ تَغَرَّض وانغَرَضَ الغُصنُ: ٹہنی کا مڑ کر ٹوٹنا مگر جدانہ ہونا۔

۴۔ غَرِضَ ـَـ غَرَضًا الشئَ: سے رکنا، باز رہنا۔ غَرِضَ غَـرَضًـا منـه: سے اکتانا، ملول ہونا، ڈرنا۔ اَغْرَضَ فلانًا: کو تنگ کرنا، پریشان کرنا۔

۵۔ غَرِضَ ـَـ غَرَضًا اليه: کا مشتاق ہونا۔ صفت غَرِض

۶۔ غَرَّضَ فلانًا: کو نشانہ بنانا۔ اَغْرَضَ الغَرَضَ: نشانہ پر لگنا۔ اِغْتَـرَضَ الشئَ: کی شِسْت باندھنا، کو ہدف بنانا الـغَـرَض (مص) جمع اَغْراض: خواہش حاجت، مقصد، نشانہ (کہا جاتا ہے۔ فهمت غَرَضك: میں تمہارا ارادہ اور مقصد سمجھ گیا ہوں۔) ٹولہ گروہ جماعت، کہتے ہیں: غَـرَضُـه كذا: اس کی جماعت ایسی ہے۔ المُغْرِض جمع مُغْرِضُون و المُتَغَرِّض جمع مُتَغَرِّضون: طرف دار، متعصب، مبنی بر مقصد کہتے ہیں۔ هو مُتَغَرِّضٌ عليه اوضدّہ: وہ اس کے خلاف میلان رکھتا ہے۔

۷۔ غَرَّضَ: مزاح کرنا۔ الـغَرِيْض: خوش کن گیت، عمدہ گویا۔

۸۔ الـغَارِض: لمبی ناک۔ الـغَرْض جمع غُـرُضـان و غِـرضان و اَغْرُض: وادی کی ناقص شاخ۔ ـــ جمع اَغْـرَاض وغُـرُوض و الـغُرضَة جمع غُرُض و غُرُض: کجادہ کا تنگ۔ الـمَغْرِض جمع مَغَارِض: اونٹ کا تنگ۔

۹۔ الـغُرْضُوف جمع غَرَاضِيف: نرم ہڈی جیسے ناک کان وغیرہ کی۔ الـغُـرضوفان: اونٹ کے پالان کے ہر دو طرف کی لکڑیاں۔

○ اَغْرَضَ الغَرَض: مقصد حاصل کر لینا۔ تَغَرَّضَ له: کی طرفداری کرنا، کا جانبدار ہونا، کے لئے میلان رکھنا، تعصب رکھنا، سے خصوصی رغبت رکھنا، غَـرَض جمع اَغْـراض: نشانہ، ہدف، مقصد، ارادہ، منشا، نیت، مراد، مطلب، ذاتی مفاد، رجحان، میلان، تعصب، میلان خاطر جمع اَغْراض: روزمرہ استعمال کی چیزیں، اشیاء، چیزیں۔ متفرقات۔ غَرَضی: رجحان کا، میلان کا، غَرِيض جمع اَغارِيض: تازہ۔ نرم۔ تَغَرُّض: میلان خاطر۔ تعصب، مبنی بر مقصد رویہ۔ مُـغْرِض: جانبدارانہ، مبنی بر مقصد، جمع مُغْرِضون: جانبدار، طرف دار، متعصب ذاتی مفادات کو سامنے رکھنے والا۔

غرف: ا۔ غَـرَف ـِـ غَرْفًا واغْتَرَفَ الماءَ بيده: پانی سے چلو بھرنا۔ تَـغَـرَّفَ ہٗ: کی سب چیزیں لے لینا الـغَرْف (مص) و الغَرَف: وہ پودا جس سے چمڑا رنگا جاتا ہے۔ الغُرفَة جمع غِراف و الغُرافة: چلو بھر پانی وغیرہ۔ الغِرْفَة جمع غِرَف: چلو بھرنے کی ہیئت۔ جوتا الغَارِفَة جمع غَوَارِف: غارف کا مونث۔ الغِراف: ایک بڑا پیمانہ۔ الـغَرَّاف: بہت چلو لینے والا۔ نهرٌ غَـرَّاف: بہت پانی والی نہر۔ غَيثٌ غَـرَّاف: بہت بارش۔ الغَرُوف من الآبار: وہ کنواں جس سے پانی چلو سے لیا جائے۔ الـغَـرِيْفة: جوتا، تلوار کے پرتلے کے نیچے کا چمڑا۔ الـمِغْرَفَة جمع مَغَارِف: ڈوئی۔ بڑا چمچہ۔

۲۔ غَـرَف ـُـ غَرْفًا الشئَ: کو کاٹنا۔ ـــ ناصيتَهٗ: پیشانی کے بال تراشنا۔ اِنْغَرَفَ الشئُ: کٹنا، مڑنا، ٹوٹنا۔ ـــ العظمُ: ہڈی کا ٹوٹنا۔ ـــ فلانٌ: مر جانا۔ الغُرْفَة جمع غُـرَف و غُـرُفات و غُرَفات و غُرْفات: بالوں کا گچھا۔ الـغَارِفَة جمع غَـوَارِف من النوق: تیز رفتار اونٹنی۔ الـمِـغْـرَف جمع مَـغَـارِف: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے۔ فـارِسٌ مِغْرَفٌ: (تیز دوڑنے والا گھوڑا)

۳۔ الـغُـرْفة جمع غُـرَف و غُـرُفـات و غُـرَفات و غُرْفات: چھوٹا کمرہ، بالاخانہ۔ الغَرِيف: بانس نرکل وغیرہ کی جھاڑی۔ ـــ من الشجر: گھنا درخت۔

۴۔ الغَرِيْفَة: گھنا درخت۔ الغِرِيفِيْلِيَا (ن): ایک قسم کا درخت یا پودے۔

○ غَـرَف ـُـ غَرْفًا ہ: کو ڈوئی، چمچے یا کفچہ سے نکالنا۔ ـــ ہ: کوئی چیز (جیسے کھانا) ڈوئی کے ذریعے نکال کر پیالہ وغیرہ میں ڈال کر پیش کرنا۔ ـــ ہ: کھانا پیش کرنا۔ اِغْتَرَفَ ہ من: کو سے ڈوئی یا کفچہ سے نکالنا۔ غُرْفَة جمع غِراف: چلو بھر پانی۔ مٹھی بھر، ذرا سا، جمع غُرُفات و غُـرَف: بالائی منزل کا کمرہ، کمرہ، ایوان چیمبر (Chamber) کیبنٹ، کمپارٹمنٹ، وارڈ، غُـرفة الاكل: کھانے کا کمرہ۔ غُرْفَةُ التجارة: یا الغُرفة التـجـارية: ایوان تجارت (Cahmber of Commerce) غُرْفة السُفْرَة: کھانے کا کمرہ۔ غُرْفَةُ القيادة: دیدبان (Bridge) غُرْفَةُ النوم: سونے کا کمرہ۔ بیڈروم Bedroom غـرَّاف جمع غَرَارِيف: رہٹ۔ مِغْرَفة جمع مَغَارِف: بڑا چمچہ۔ ڈوئی، کفچہ۔

غرق: ا۔ غَرَقَ ـُـ غَرْقًا من اللبن: دودھ کا گھونٹ پینا۔ غَرِقَ ـَـ غَرَقًا فلانٌ: دودھ کا گھونٹ پینا۔ الغُرْقَة جمع غُرَق: دودھ وغیرہ کا گھونٹ۔

۲۔ غَرِقَ ـَـ غَرَقًا فی الماء: پانی میں ڈوب جانا، غرق ہو جانا، صفت غَارِق و غَرِق و غَرِيق جمع غَرْقَى: عام لوگ غـريق کو غَـرِق کے معنی میں استعمال کرتے

ہیں۔ غَرَّقَ ہٗ کوڈبونا۔ اللجامَ بالفِضّۃلگام کوچاندی سے آراستہ کرنا۔ غَارَقَ ہٗ کے نزدیک آنا۔ کہاجاتا ہے۔ غَارَقَتْنِیُ المنیۃُموت میرے نزدیک آگئی۔ اَغْرَقَ ہٗ: کوغرق کرنا۔ڈبونا۔ ــ اللجام بالفضۃ: لگام کوچاندی سے آراستہ کرنا۔کہاجاتا ہے۔ اَغْرَقَ اعمالَہٗ بالمعاصی اس نے اپنے نیک کاموں کوگناہوں سے برباد کردیا۔ اِسْتَغْرَقَ الشَّیئَ کوسب کاسب لے لینا۔ ــ فی النوم گہری نیندسونا۔ اِغْرَوْرَقَت العینُ آنکھ کاآنسوؤں سے بھر جانا۔

۳۔ غَرِقَ ـُ غَرَقًا بے پرواہونا،غنی ہونا۔

۴۔ غَرَّقَ فی القوس کمان کوبہت کھینچنا۔ أَغْرَقَ فی القوس کمان کوبہت کھینچنا۔ ــ فی الامر میں مبالغہ کرنا،حد سے زیادہ کرنا۔ اِغْتَرَقَ النفَسَ گہرا سانس لینا۔ ــ البعیرُ التصدیر اونٹ کی موٹائی کی وجہ سے اس کے تنگ کاکس جانا۔ ــ الفرسُ الخیلَ: گھوڑے کاگھوڑوں میں گھس کرآگے بڑھ جانا۔کہتے ہیں۔ فلانٌ یغترق العینَ خوبصورتی کی وجہ سے جاذب نظرہونا۔ اِسْتَغْرَقَ الغایۃَ حد سے آگے بڑھنا۔ ــ فی الضحک کھل کھلاکر ہنسنا۔

۵۔ غَرُقَأَت الدجاجۃُ بیضتہا مرغی کاکچاانڈا ڈالنایا دینا۔ ــ ت البیضۃُ کچاانڈا گرنا،نکلنا۔ الغِرْقِئُ: انڈے کی سفیدی کی جھلی۔انڈے کی سفیدی۔

O غَرِقَ ــ َ غَرَقًا فی میں کودپڑنا،ڈبکی،لگانا،غوطہ لگانا،چھلانگ لگانا،غوطہ مارنا،ڈوب جانا،غرق ہوجانا، میں ڈوبا ہوا ہونا،منہمک ہونا،مستغرق ہونا،مشغول ہونا،کھویاہواہونا،جذب ہونا، غَرَّقَ ہ / ھکوڈبکی دینا،ڈوبادینا۔ڈبونا۔ ــ ھکوڈبونا،غرق کرنا۔ ــ ھ: کوزیرآب کرنا، ــ السوق بمنڈی کوسے بڑی تعداد میں بھردینا۔ اَغْرَقَ بمعنی غَرَّقَ نیز اغرق فی میں حدود سے تجاوزکرنا۔میں مبالغہ سے کام لینا، میں حد سے زیادہ،فزون بہت زیادہ ہونا،کوحد سے زیادہ لیجانا۔ اَغْرَقَ فی الضحک: قہقہہ مارنا، قہقہہ مارکرہنسنا۔ تَغَرَّقَ ڈوب جاناغرق ہوجانا۔ اِسْتَغْرَقَ فی نیندوغیرہ میں ڈوباہواہونا،میں ڈوباہوا ہونا۔ ــ ہ/ ھکوجذب کرنا۔منہمک کرنا،مشغول کرنا، پرحق جتانا،بھرنا،اٹھانا،لینا (جیسے وقت لینا) گھیرنا (جیسے جگہ)۔ ــ ھ:(وقت) لینا،(کچھ وقت) جاری رہنا،رہنا۔ استغرق فی الضحک بمعنی اغرق فی الضحک۔ اغرورقت عیناہ بالدموع اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ترہوگئیں۔ غَرِیقٌ جمع غَرْقیٰ ڈوباہوا،ڈوبی ہوئی چیز۔ ــ فی میں ڈوبا ہوا،منہمک،جذب، غرقان ڈوباہوا۔ تَغْرِیق: ڈبونا،غرق کرنا،جہاز ڈبونے کے لئے اس کے پیندے میں چھید کردینا۔زیرآب کرنا،بڑی تعداد میں بھرنا۔ اِغْراق بمعنی تغریق نیز:مبالغہ کرنا،حد سے زیادہ،فزوں ازحدیابہت زیادہ ہونا،بےاندازہ ہونا، حددرجہ،بےحدہونا،اسراف،فضول خرچی،مبالغہ،غلو، غَارِق ڈوباہوا،منہمک،جذب غَارِق فی الدَّھْشۃ سخت بھونچکا،ششدر،گہراصدمہ پائے ہوئے انتہائی دہشت زدہ۔ مُغْرِق فی میں ڈوباہوا، منہمک،جذب، مُسْتَغْرِق (فی) میں ڈوباہوا، منہمک،جذب۔

غرل: غَرِلَ ـَ غَرَلًا الصبیُّ بچہ کاغیرمختون ہونا صفت اَغْرَل مونث غَرْلاء جمع غُرْل ــ الغرل ڈھیلا ڈھالاآدمی۔بےتکالمبانیزہ۔ الاَغْرَل نرسبزی کا سال،آسودہ زندگی۔ الغُرْلۃ جمع غُرَل وہ کھال جس کوختنہ کے وقت کاٹاجاتاہے۔

غرم ۱۔ غَرِمَ ــ َ غَرْمًا و غُرْمًا و غَرَامَۃً و مَغْرَمًا الدَّیْنَ قرض اداکرنا۔ ــ فی التجارۃ تجارت میں ٹوٹاہونا،خسارہ ہونا۔ غَرَّمَ وَاَغْرَمَ ہٗ الدَّیْنَ کوقرض اداکرنے کیلئے مجبورکرنا۔کہاجاتاہے۔ غَرِمَ السحابُ: بادل نے مینہ برسایا۔ تَغَرَّمَ تاوان برداشت کرنا، اپنے ذمہ لینا۔ اِغْتَرَمَ قرض کی ادائیگی کاذمہ لینا۔ الغَرَامَۃ والغُرْمُ: قرض،تاوان،ضرر،مشقت، الغَرِیم جمع غُرَماء و غُرَّام قرض خواہ، قرض دار، مخالف۔ المَغْرَم جمع مَغَارِم: قرض،تاوان،ضرر، مشقت۔

۲۔ اُغْرِمَ بِالشَّیئِ کابہت مشتاق ودلدادہ ہوناصفت: مُغْرَم۔ الغَرَام شوق،عشق،ہلاکت،دکھ،تکلیف۔

۳۔ الغراماتیق او الغراماطِیْق گرامر،گرامرکی کتاب،(یونانی لفظ)

O غَرِمَ ــ َ غُرْمًا وغَرَامَۃً و مَغْرَمًا ھ: (تاوان وغیرہ) اداکرنا۔ ــ نقصان اٹھانا۔ غَرَّمَ ہ پرجرمانہ کرنا،پرجرمانہ عائدکرنا۔ اَغْرَمَ بمعنی غَرَّمَ ہ اُغْرِمَ ب: کابہت شائق ہونا۔دلدادہ ہونا،محبت کرنے والاہونا،پرفریفتہ ہونا،کاگرویدہ ہونا،کاعاشق ہونا،پر لٹوہونا،تَغَرَّمَ کوجرمانہ کیاجانا۔پرجرمانہ عائدکیاجانا۔ غُرْم ہرجانہ،ہرجہ،تاوان،نقصان،گھاٹا،خسارہ، غَرَام ب پرفریفتگی۔سے محبت،کاعشق،بےحدشوق، کی شدیدخواہش،رغبت۔ ــ جرمانہ،تاوان، غَرَامِی: جذباتی،پرجوش،جوشیلی،عاشقانہ،شہوانی،آشنائی کا، مخفی معاشقہ کا،محبت کا، غَرَامِیَات تماشائیاں،خفیہ معاشقے،معاشقے،رومانیات،محبت کی باتیں،آشنائی کی مہمیں۔ رسالۃ غرامیۃ محبت کاخط Love latter۔ غَرِیم قرض خواہ،مقروض،مخالف، حریف،مقابل،مدمقابل،دشمن،رقیب،توہین کرنے والا۔ غَرِیْمَۃ مخالف،حریف،دشمن (عورت) غَرَامَۃ جمع غَرَامات جرمانہ،تاوان،ہرجہ،ہرجانہ، معاوضہ،تلافی،بدلہ۔ مَغْرَم جمع مَغَارِم ہرجہ،ہرجانہ، نقصان،خسارہ،قرض،ادھار،(کی) ذمہ داری،مالی ذمہ داری۔جرمانہ۔ مُغْرَم ب کادلدادہ،پرفریفتہ،کا عاشق،سے محبت کرنے والا،کاشائق،پرلٹو۔

غرن: غَرِنَ ـَ غَرَنًا العجینُ گوندھے ہوئے آٹے کا خشک ہونا۔ الغَرِن کمزور الغَرِین و الغِرْیَن سیلاب کی لائی ہوئی مٹی (گیلی یاخشک)،جھاگ،بےوقوفی، حماقت، الغرانیت سنگ مرمرکی ایک قسم،گرینیٹ (Granite)

۲۔ الغُرْنُوق و الغِرْنِیق و الغُرْنَیق و الغُرانق جمع غَرَانِق و غَرَانِیق و غَرَانِقَۃ (ح) سارس سے مشابہ ایک آبی پرندہ۔خوبصورت سفیدفام جوان لڑکایا لڑکی۔ (شابٌ غُرانِقٌ و صَبِیَّۃ غَرانِق وغُرانِقَۃ) ــ الغُرْنُوقی (ن) پوداجس کے پھول خوبصورت اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔

O غُرْنُوق و غِرْنِیق جمع غرانیق کونج،کلنگ۔

غرو ۱۔ غَرَا ـُ غَرْوًا الرجُلُ تعجب کرنا۔ غَرِیَ ـَ غَرَاءً وغَرًا و غُرِیَ و غُرِّیَ و اُغْرِیَ بکذا کا دلدادہ ہونا،گرویدہ ہونا، ــ الغَرَا حسن،خوبصورتی، کہاجاتاہے: بِہٖ غَرًا یعنی وہ حسین ہے۔ الغَرَاء والغُرُوی: کسی چیزکی بہت خواہش یااشتیاق کہاجاتا ہے۔ لاغَرْوَ ولاغُرْوَی من کذا یعنی کوئی تعجب نہیں۔ الغَرِیّ خوبصورت،عمدہ عمارت۔ الغَرِیّان: حیرہ کے قریب دومشہورعمارتیں تھیں۔

۲۔ غَرَا ـُ غَرْوًا الجلد کوسریش سے جوڑنا۔ الشحمُ قلبَہٗ چربی کادل کوڈھک لینا۔ غَرِیَ ـَ غَرَاۃً بہ: سے چمٹنا،کے ساتھ لگارہنا۔ غَرَّی تَغْرِیَۃً الشَّیئَ کو سریش سے جوڑنا۔ غَارَی غِرَاءً و مُغَارَاۃً فلانًا: سے سخت جھگڑاکرنا۔ بین الشیئین دوچیزوں کوجوڑنا، کویکے بعددیگرے کرنا۔ اَغْرَی الرجُلَ بکذا کو کی ترغیب دینا،کوپراکسانا۔ ــ العداوۃ بینہم: آپس میں فسادکرانا۔ الغَرَا و الغِرَاء گاغذ یاجلد جوڑنے کی چیز،سریش،وہ چیزجس سے طلاکیاجائے۔ المِغْرَاۃ سریش لگانے کااوزار،نجاراورعام لوگ اسے مِغْرَایَۃ کہتے ہیں۔

۳۔ غَرِیَ ــ غَرَاءً وغَرًا وغَرِی و غُرِیّ و اُغرِیَ الغدیرُ تالاب کے پانی کا سرد ہونا۔

۴۔ غَرِیَ ــ غَرَاءً وغَرًا وغَرِی و غُرِیّ و غَرِیّ و اُغرِیَ فلانٌ بہت ناراض ہونا۔

۵۔ الغِریَۃ چھوٹی جنگ یا انصار کی جنگ۔

○ غَرَا ــُ غَرْوًا ہ و غَرّی ہ کو سریش سے چپکانا یا جوڑنا۔ اغری ہ ب کو کا لالچی یا حریص بنانا۔ کو پر اکسانا، پر مجبور کرنا، ورغلانا، کو سے للچانا، کو کی ترغیب دینا، کو کی تحریص دینا، کو کچھ کرنے پر پھسلانا، بہکانا، ورغلانا، کو پر لگانا۔ ــ ہ کا باعث ہونا، کا باعث بننا۔ اُغرِیَ ب: کی شدت سے خواہش کرنا، سے محبت کرنا، کا گرویدہ ہونا، اغری العداوۃ بین: کے درمیان دشمنی یا عداوت پیدا کرنا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا غَرًا و غِراء سریش غِرانی سریش کا چپکنے والا۔ غِرَوِی سریش کا، چپکنے والا، چپچپا، لیس دار، غَرّایۃ سریش (ڈالنے) کا برتن مِغراۃ سریش (ڈالنے) کا برتن۔ اِغْراء ترغیب، انگیخت، تحریک، اشتعال، تحریص، لالچ، مہمیز، محرک، مہیج، ورغلانا، غلط راہ پر لگانا، (جرم یا گناہ کی) ترغیب۔ مُغْرٍ ورغلانے والا، تحریص دینے والا، ترغیب دینے والا، برانگیختہ کرنے والا، تحریک کرنے والا، اعانت جرم کرنے والا، گمراہ کرنے والا۔ مُغریات: کششیں، پرکشش، اشیاء ترغیبات، تحریصات

غزّ: غَزَّ ــُ غَزًّا و اغتزّ بفلان: کو اپنے ساتھیوں میں سے خاص کرنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: غَزَّہ بالابرۃ: میں سوئی چبھونا۔ غازّ مُغازّۃً ہ پر سبقت کرنا، سے جھگڑنا۔ اَغَزّ الشجرُ درخت کے کانٹوں کا سخت اور بکثرت ہونا۔ ــ ت البقرۃ گائے کا مشکل سے حاملہ ہونا۔ تغازّ القومُ الشیَ پر آپس میں جھگڑنا۔ الغُزّ باچھ۔ ترکوں کی ایک قوم واحد غُزّیّ۔ اَغَزّ: کانٹے دار ہونا، خاردار ہونا، چبھونا۔ غَزّۃ جنوبی فلسطین کی بندرگاہ) غَزّی جالی، گاج (Gauze)

غزر۱۔ غَزُرَ ــُ غَزْرًا وغَزَارَۃً وغُزْرًا الماءُ وغیرہُ: پانی وغیرہ کا بہت ہونا۔ ــت الناقۃُ اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔ غازَرَ و استغزرَ بہت لینے کی امید میں تھوڑا دینا۔ اَغزَرَ المعروفَ بہت سخاوت کرنا ــ القومُ بہت دودھ والی اونٹنیاں رکھنا یا بہت بارش میں ہونا۔ تغزّرَ الرجلُ زیادہ گوشت والا ہونا، موٹا ہونا۔ الغُزْر و الغَزَارۃ کثرت، بہتات، افراط۔ الغَزیر جمع غِزار زیادہ، بہت۔ الغَزِیرۃ جمع غِزار غزیر کا مونث۔ ــ من النوق بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ من العیون بہت آنسو بہانے والی آنکھ۔ من الابار والینابیع بہت پانی والے کنویں اور چشمے۔ المِغْزار، من الابل بہت دودھ والی اونٹنی۔ مَکانٌ مَغْزُورٌ جگہ جہاں بہت بارش ہوئی ہو۔

۲۔ الغَزْرُ کھجور کی شاخوں کی ٹوکری۔ الغَزّار (ن ہ) نرسل، بید کے پودے۔

○ غَزُرَ ــُ غَزْرًا و غَزَارَۃً بہت ہونا، فراواں ہونا، وافر ہونا، کثیر ہونا، بافراط ہونا، بکثرت ہونا، غَــزْر بہتات، فراوانی، کثرت، افراط، غَزِیر جمع غِزار بہت زیادہ، بہت، فراواں، وافر، باافراط، بکثرت، بہت، گھنا، گنجان۔ ــ ب سے بھرپور، کی بہتات یا افراط والا۔ غَزِیرُ المادۃ بہت باخبر، عالم فاضل، کثیر المطالعہ۔ غزیر المواد بہت معلوماتی (کتاب) غَزَارۃ بمعنی غزر، غزاری کبوتر کی ایک قسم۔

غزل۱۔ غَزَلَ ــِ غَزْلًا و اغتَزَلَ الصوفَ اون کاتنا۔ اَغزَلَت المرأۃُ عورت کا تکلہ پھیرنا۔ الغَزْل (مص): کاتا ہوا۔ الغازِل جمع غُزَّل و غَوازِل: غازل کا مونث کاتنے والی۔ الغَزّال بہت کاتنے والا۔ المِغْزَل و المَغزل و المُغزَل جمع مَغازِل: تکلہ۔ ضرب المثل ہے۔ اَغْزَی من المِغزل کیونکہ عورت تکلے پر کوئی چیز باقی نہیں رہنے دیتی۔ المُغَیْزِلُ مغزل کی تصغیر ہے، باریک رسی۔

۲۔ غَزِلَ ــَ غَزَلًا بالنساء عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی خوبصورتی اور جمال کی تعریف کرنا ان سے عشق بازی کرنا۔ غازَلَ المرأۃَ عورت سے محبت و پیار کی باتیں کر کے اسے پھسلانا۔ کہا جاتا ہے۔ غازَلَ فلانٌ الاربعین من العمر فلاں شخص چالیس برس کی عمر کے قریب پہنچ گیا۔ هو یغازل رغدا من العیش وہ عیش وعشرت کی زندگی گزارتا ہے۔ تغزّلَ فلانٌ تکلف عشق بازی کرنا۔ تغازَلَ القومُ ایک دوسرے سے محبت و پیار کی باتیں کرنا۔ الغَزَل (مص): عورتوں سے لہو ولعب ــ الغزل عورتوں سے پیار و محبت کی باتیں کرنے والا، کوشش میں کمزور۔ الغَزِیل عورتوں سے باتیں کرنے والا۔ الاَغزَل: غزل سے اسم تفضیل ــ من الحُمّی بار بار آنے والا بخار۔

۳۔ اَغزَلَت الظبیۃُ ہرنی کا بچے والی ہونا۔ الغَزال جمع غِزْلَۃ و غِزْلان (ح) ہرن کا بچہ۔ ہرن الغَزالۃ ہرنی۔

۴۔ الغَزالۃ چڑھنے کے وقت کا سورج غزالۃُ الضُحی و غزالۃ چاشت کے وقت کا شروع۔

○ غزل ــ غزلا ہ کو کاتنا۔ [illegible] (عورت) سے عشقیہ رویہ اختیار کرنا۔ سے پیار و محبت کرنا، سے عشق بازی کرنا، سے معاشقہ کرنا، سے تفریحاً محبت کرنا، اشعار میں عورت کی تعریف کرنا، غَازَلَ ھا: (عورت) سے محبت کرنا، سے پیار کرنا، سے معاشقہ کرنا، سے تفریحاً محبت کرنا، سے عشق بازی کرنا۔ تَغَزَّلَ ب (عورت) سے معاشقہ کرنا، سے تفریحاً محبت کرنا، سے محبت کرنا، پیار کرنا، سے عشق بازی کرنا، کو پیار کی نظروں سے دیکھنا۔ ــ ب او فی: عشقیہ اشعار میں (عورت) کی تعریف کرنا۔ ــ ب: (کسی چیز کی تعریف) کے پل باندھنا کی تعریف کرنا، کی حمد کرنا۔ تَغازَلَ ایک دوسرے سے تفریحاً محبت کرنا۔ اِغْتَزَلَ ہ کو کاتنا۔ غَــزْل کاتنا (جمع غُزُول): کاتا ہوا دھاگا، سوت۔ مصنع الغزل: کتائی کا کارخانہ غَــزَل تفریحاً محبت، عشق بازی، معاشقہ، محبت، پیار کی باتیں، محبت کرنے والوں کی چکنی چپڑی پیار کی باتیں کرنا، غزل، عشقیہ شاعری، غَزّالۃ: مکڑی، مکڑا غَزالۃ ہرنی چڑھتا سورج، سورج کی ٹکیہ، ابو مغازل لگا لقلق۔

غزو۱۔ غَزَا ــُ غَزْوًا ہ کو طلب کرنا، کا قصد کرنا، کہا جاتا ہے۔ عرفتُ مایُغزَی من هذا الکلام: میں نے اس گفتگو کا مقصد و مطلب جان لیا ہے۔ اِغتَزَی اِغتِزاءً فلانًا کا قصد کرنا۔ ــ بہ کو دوستوں میں سے چن لینا، مخصوص کرنا، خاص کرنا۔ الغِزْوَۃ جس کا قصد کیا جائے جس کو طلب کیا جائے۔ مقصد و مطلب، مراد مَغْزَی الکلام جمع مَغازٍ مقصد کلام۔

۲۔ غَزَا ــُ غَزْوًا و غَزَاوَۃً و غَزَوانًا القومَ سے لڑنے کے لئے نکلنا، لوٹ مار کیلئے حملہ کرنا، غَزّی و اَغْزَی فلانًا: کو لڑائی کے لئے روانہ کرنا یا تیار کرنا اور اس پر برانگیختہ کرنا۔ الغازی جمع غُزَاۃ و غُزّی و غُزِیّ و غُزّاء م غازیۃ جمع غَوازٍ و غازیات: (فا) قدیم مسکوکات کی ایک قسم جو بیس قرش کے مساوی تھی اور عورتیں آرائش کے لئے ان کو اپنے گندھے ہوئے بالوں کے ساتھ لٹکایا کرتی تھیں۔ الغَزاۃ جمع غَزَوات: غزو کا اسم۔ الغَزْوَۃ جمع غَزَوات ایک لڑائی، ایک حملہ۔ المَغزَی جمع مَغازٍ جنگ کرنا، جنگ کرنے کی جگہ المَغازی غازیوں کے مناقب۔ غازیوں کے کارنامے۔ : کتاب المغازی جس میں غازیوں کے مناقب اور کارنامے بیان کئے گئے ہوں۔ اِمرأۃٌ مُغْزِیَۃ وہ عورت جس کا خاوند جنگ پر گیا ہو۔

۳۔ غَــزّی و اَغْــزَی ہ مقروض کو مہلت دینا۔ اتان

اونافة مُغزِية: گدھی یا اونٹنی، جو دیر سے جنے۔

○ غزا ـُ غزوًا ہ: کی جدوجہد کرنا، کا متمنی ہونا، کی آرزو کرنا، کو چاہنا، کی نیت ہونا، کا ارادہ ہونا۔ غـزا ـُ غـزْوًا و غـزوانًا ہ/ ہ: کے خلاف عسکری مہم جوئی کرنا، پر اچانک حملہ کرنا، اچانک ہلہ بولنا، چڑھائی کرنا، جارحیت کرنا، پر حملہ کرنا، دھاوا بولنا، چھاپہ مارنا، حملہ آور ہونا، کو شکست دینا، زیر کرنا، پر فتح پانا، کو فتح کرنا کو لے لینا، پر قابو پانا، غزا السوقَ: مال منڈی میں بڑی تعداد میں پہنچنا۔ غزْوَة و غزو: عسکری مہم، اچانک حملہ، چھاپا، حملہ، جارحیت، فتح، فتح کی مہم۔ غزاة جمع غزوات: بمعنی غزْوَة و غزْو مغزًی جمع مَغازٍ: مطلب مفہوم، معنی، ٹھیک مفہوم، مدعا، نتیجہ، اصول عمل، اہمیت، مغزیٰ دقیق: گہرا مفہوم ذو مغزی: اہم، معنی خیز۔ مَغـزاة جمع مَغـاز: عسکری مہم، حملہ، چھاپہ، اچانک حملہ، اچانک ہلہ، المغازی: رسول اللہؐ کی عسکری مہمیں۔ غازٍ جمع غُزاة: عسکری مہم جوئی کرنے والا، اچانک ہلہ بولنے والا، حملہ آور، چھاپا مارنے والا، جارح، فاتح، الغازی: غازی غازِیَة جمع غوازٍ: رقاصہ

غسّ: غسَّ ـُ غسًّا فی البلاد: ملک میں گھس جانا۔ ـ ہُ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا۔ ـ الکلام: کلام میں نقص نکالنا۔ ـ الھرَّ: بلی کو دھتکارنا۔ انغسَّ فی الماء: پانی میں ڈوبنا۔ الغس: کمزور، حقیر۔

○ غُسّ: (واحد جمع): بیکار، ناکارہ، فضول۔

غسر: غسَر ـُ غسْرًا علی الغریم: مقروض پر سختی کرنا۔ تـغسّر الغزلُ: سوت کا لپٹا ہوا اور الجھا ہوا ہونا۔ ـ الامرُ: کام کا پیچیدہ ہونا۔ صفت غسِرٌ۔ الغسَر: کوڑا کرکٹ جس کو ہوا تالاب میں لا ڈالے

غسف: اَغْسَفَ: اندھیرے میں داخل ہونا، اندھیرے میں چلنا۔

غسق: ا۔ غسَقَ ـِ غسْقًا و غسَقًا و غسَقانًا اللیلُ: رات کا بہت تاریک ہونا۔ ـ غسقًا و غسُوقًا و غسِقَ ـَ غسَقانًا العینُ: آنکھ میں آنسوؤں کا ڈبڈبانا، آنکھ کا تاریک ہونا۔ ـ الماءُ: پانی کا گرنا۔ ـ الغیمُ: بادل سے بارش پڑنا۔ اغسقَ اللیلُ: رات کا بہت تاریک ہونا۔ ـ الرجُلُ: تاریکی میں داخل ہونا۔ الغسَق: رات کے پہلے حصہ کا اندھیرا۔ الغاسِق (فا): چاند۔ رات جبکہ اس کی تاریکی بڑھ جائے۔ سیاہ سانپ۔

۲۔ الغسّاق و الغُسَاق: ٹھنڈا، سرد، بدبودار۔

غسل: ا۔ غسَلَ ـِ غسْلًا و غُسْلًا الشیَّ: کو پانی سے پاک کرنا، میل کچیل دور کرنا۔ ـ ہُ: کو تکلیف دہ مار مارنا۔ غسَّل الشیَّ: کو اچھی طرح دھونا۔ انغسَلَ: دُھلنا۔ ـ الشیُّ: بہنا۔ اِغتسَلَ: نہانا، غسل کرنا ـ بالطیب: خوشبو لگانا۔ ـ الفرسُ: گھوڑے کو پسینہ آنا۔ الغُسْل: غُسل۔ ـ جمع اَغْسال: پانی، اشنان (بوٹی) وغیرہ جن سے دھویا جائے۔ الـغِسل جمع اَغسال والغِسْلة والغسُول: جس چیز سے دھویا جائے جیسے پانی، اشنان (بوٹی) وغیرہ الغُسْل: غسل کا اسم۔ الغُسالة: دھونے کے قابل کپڑا۔ ـ من الشیِ: صاف کرنے کا پانی، دھونے سے جو پانی خارج ہو۔ الغاسُول: صابن اور عموماً ہر وہ چیز جس سے دھویا جائے۔ (ن) ایک پودے کا نام جس سے دھوتے ہیں۔ الـغسّال مونث غسّالة: نہلانے والا۔ الـغسّالة: دھوبن الـغسُول: پانی، اشنان (بوٹی) وغیرہ جس سے دھویا جائے۔ ـ (ن): ایک پودا جو باغوں میں اگایا جاتا ہے اور طبی فوائد کا حامل ہے۔ الغسیل جمع غسْلَی و غُسَلاء م غسیلة جمع غسَالَی: دھویا ہوا۔ عند العامة: وہ کپڑے جو دھونے کے لئے رکھے گئے ہوں۔ الغِسْلین: کہا جاتا ہے کہ یہ اہل دوزخ کی کھالیں، گوشت اور خون ہیں جو بہیں گے المـغسَل و المَغسِل جمع مَغاسِل: دھونے کی جگہ۔ المِغسَل: جس سے کوئی چیز دھوئی جائے۔ المـغسَلة الکھربائیة: واشنگ مشین المَغسِلة: کپڑے دھونے کا برتن۔ المُغتسَل: وہ پانی جس سے نہایا جائے۔ ـ جمع مُغتسَلات: دھونے کی جگہ، غسل خانہ، لانڈری۔

۲۔ غسلَبَ الشیَ من فلان: کو سے چھین لینا۔

○ غسَلَ ـِ غسْلًا ہ/ ہ ب: کو سے دھونا، ـ ہ: کو صاف کرنا (جیسے دانت)۔ ـ ہ من: کو سے پاک کرنا۔ غسَّل ہ/ہ: کو پوری طرح دھونا۔ اِغتسَل: غسل کرنا، نہانا، غُسل جمع اَغسال: دھونا، وضو، غسل، غِسل: دھونے کا پانی غسْلة جمع غسَلات: ایک بار کا دھونا، ایک بار کا وضو غسیل: دھویا ہوا۔ (گندے یا دھوئے ہوئے) کپڑے، دھونا۔ غسُول: دھونے کا پانی، دھونے کی چیز، آبی صابن غاسُول: صابن، Lye، (Detergent) غسّال: دھونے والا دھوبی، لانڈری والا۔ غسّالة جمع غسّالات: دھوبن، لانڈری والی۔ واشنگ مشین۔ غُسالة: گندا (دھونے کا) پانی، گندا پانی۔ مغسِل و مغسَل جمع مَغاسِل: غسل خانہ، دھونے کی جگہ، طہارت خانہ۔ مِغسَل: سلفچی، بیسن، ٹب۔ مِغسَلة جمع مَغاسِل: واش سٹینڈ۔ مُغتسَل: غسل خانہ، کپڑے دھونے کی جگہ۔ طہارت خانہ۔

غسم: غسَم ـِ غسْمًا و اَغسَمَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا، صفت غاسِم۔ الغسَم: سیاہی، تاریکی، خاکستری۔ الغسَم و الأغسام: آسمان میں بادل کے ٹکڑے۔

غسن: غسَنَ ـُ غسْنًا الشیَ: کو چبانا۔ غُسانُ القلب و غُسّانُه: دل کے نہاں خانے، یا انتہائی گوشے، کہا جاتا ہے۔ علمت ان ذلک من غُسان قلبك۔ یعنی میں نے جان لیا کہ یہ تیرے دل کے نہاں خانے سے نکلا ہے۔ الغسّان و الغیسان: جوانی کی تیزی، کہا جاتا ہے۔ ما انت من غسّانه: تو اس کے مقابلہ کا نہیں۔ الغسّانی: بہت خوبصورت الغُسْنة و الغُسناة جمع غُسَن و غُسنات و غُسْنات: بالوں کا گچھا، لٹ۔ الاَغسان: لوگوں کے اخلاق۔

غسو: غسَا ـُ غسْوًا و غسِیَ یغسَی غسًی اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ اَغسَی اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ـ ہُ اللیلُ: کو رات کا تاریکی کا لبادہ اوڑھانا کو تاریکی میں روپوش کرنا۔ الغساة جمع غسَوات و غسًی: کچی کھجور۔

غشّ: غشَّ ـُ غشًّا و غشّشَ ہُ: کو دھوکا دینا، سے بے ایمانی کرنا۔ اَغشَّ ہُ: کو خیانت میں ڈالنا، دھوکے میں ڈالنا۔ ـ ہُ عن حاجته: کو اس کی ضرورت سے ہٹانا۔ باز رکھنا۔ اِغتشَّ و استغشَّ الرجُلَ: کو دھوکے باز یا منافق سمجھنا۔ الـغِشّ: غشّ کا اسم، خیانت، فریب، دھوکا، کینہ، کدورت، دل کی سیاہی، ترش روئی۔ الـغُشّ جمع غُشّون و الـغاشّ جمع غَشَشَة و غُشّاش: دھوکے باز۔

الغشَش: گدلا پانی۔ الغِشاش و الغَشاش: تاریکی شروع یا آخر۔ قـوم غُشّاشة: دھوکے باز، فریبی لوگ۔ الـمَغشُوش (مفع): ملاوٹی، ملاوٹ والا، ناخالص، کھوٹا، جعلی۔ لبنٌ مَغشُوش: پانی ملا دودھ، ملاوٹ والا ناخالص دودھ۔

○ غشَّ ـُ غشًّا ہ: سے بے ایمانی کرنا، کو دھوکا دینا، بے وقوف بنانا، گمراہ کرنا، سے فریب کرنا، کو جل دینا، کو ٹھگ لینا، ـ ہ: کو کھوٹا بنانا، میں ملاوٹ کرنا، کو خراب کرنا، بے اثر کرنا، میں آمیزش کرنا، میں کھوٹ ڈالنا۔ غشّش ہ: سے بے ایمانی کرنا، کو دھوکا دینا، کو بے وقوف بنانا، کو گمراہ کرنا، کو فریب دینا کو جل دینا، کو ٹھگ لینا، اِنغشَّ و اِغتشَّ: دھوکا کھانا، بے وقوف بننا، فریب میں آنا، ٹھگا جانا، اِستغشَّ ہ: کو بے ایمان اور فریبی

سمجھنا، پردھوکا یا جعل سازی کا شبہ کرنا۔ غَشّ: ملاوٹ، بدعنوانی، کھوٹ ڈالنا، دھوکا، دغا، فریب، مکر، جال داؤں۔ غَشَّاش: دھوکے باز دغاباز، بے ایمان، عیار، فریبی، ٹھگ، دھوکے میں ڈالنے والی، مغالطہ میں ڈالنے والی (چیز، حالت مشکل) پر فریب سراب (امید)، مصنوعی نقلی۔ غِشّ: غداری، بے ایمانی، بے وفائی، نمکحرامی، دھوکا، فریب، دغا، فراڈ، جھوٹ، ٹھگی۔ مَغْشُوش: دھوکہ میں آیا ہوا، فریب خوردہ، بے وقوف بنایا ہوا، فریب زدہ، ٹھگا ہوا، ملاوٹ شدہ، خراب کیا ہوا، کھوٹا، کھوٹ ملا ہوا۔

غشم: ۱۔ غَشَمَ ـِ غَشْمًا و تَغَشَّمَ ہٗ: پر ظلم کرنا۔ الغَاشِم والغَشَّام و الغَشُوم: ظالم، غاصب۔ المَغْشَم: ظالم۔

۲۔ غَشَمَ ـِ غَشْمًا الحاطبُ: لکڑہارے کا رات کو بغیر تمیز کے لکڑی کاٹنا۔ الغَشِیم م غَشِیمَة عند المحدثین: جاہل جسے کوئی واقفیت نہ ہو۔ المِغْشَم: بہادر جسے کوئی بات اس کے ارادہ سے نہ موڑ سکے۔

۳۔ الغَشِیم (ب): کھردرا یا ناہموار پتھر۔

۴۔ غَشْمَرَ غَشْمَرَةً السیلُ: سیلاب کا آنا۔ تَغَشْمَرَ السیلُ او الجیشُ: سیلاب یا لشکر کا آنا۔

۵۔ غَشْمَرَ غَشْمَرَةً الرجُلُ: حق یا باطل میں خودرائے ہونا، اپنی مرضی پر چلنا، اپنے اوپر بھروسہ کرنا۔ ــ الامرَ: بے سوچے سمجھے کام کرنا۔ ــ فلانًا: پر ظلم کرنا، تَغَشْمَرَ علیه: پر غضبناک اور ناراض ہونا۔ ــ فلانا: کو زبردستی لے لینا، پر ظلم کرنا۔ الغَشْمَرِیَّة: ظلم۔ الغِشْمِیر: سختی، شدت۔ کہا جاتا ہے۔ اخذه بالغِشْمِیر: اس نے وہ چیز زبردستی لے لی، چھین لی۔

۶۔ الغَشْمَرَة جمع غَشَامِر: آواز

۷۔ الغَشَمْشَمُ: بہت ظالم، دلیر، بہادر۔ الغَشَمْشَمَة و الغَشَمْشَمِیَّة: جرأت۔

○ غَشَمَ ـِ غَشْمًا ہٗ: سے ناانصافی کرنا، سے ظالمانہ سلوک کرنا، پر ظلم کرنا، سے نامنصفانہ سلوک کرنا۔ ــ ھ: میں سوچ سمجھ سے کام نہ لینا۔ تَغَاشَمَ: اپنے آپ کو ناواقف اور ناتجربہ کار بتانا یا ظاہر کرنا۔ اِسْتَغْشَمَ ہٗ: کو گونگا، بے وقوف، جاہل یا ناتجربہ کار سمجھنا۔ غَشْم: ظلم، زیادتی، بدسلوکی، شدت، غَشُوم: بے انصاف، غیر منصفانہ، ناجائز، جانبدار، غیر منصف، جابرانہ، مستبدانہ، ظالم۔ القُوَّة الغَشُوم: اندھی طاقت (Brute force) غَشِیم جمع غُشَمَاء: ناتجربہ کار، جاہل، ناواقف، بے وقوف، گونگا، نیا (کسی دفتر میں) اناڑی، فریب خوردہ، کچا، گنوار، اجڈ، غیر مہذبانہ، غیر تعلیم یافتہ، غیر کاریگر، غیر تربیت یافتہ، بے ڈول، بے ڈھنگا، بھونڈا، بھدا، بدوضع، اکھڑ، ناشائستہ، ان گھڑ، غُشُومة: ناتجربہ کاری، حماقت، غَاشِم: غیر منصف، بے انصاف، غیر منصفانہ، ظالمانہ، جابرانہ، ناجائز، غیر عادل، ظالم، جھاگ، تلچھٹ، دھات کا میل، فضلہ۔ قوة غاشمة: اندھی طاقت۔

غشو: ۱۔ غَشَا ـُ غَشْوًا فلانًا: کے پاس آنا غَشِیَ ـَ غَشَیَانًا فلانًا: کے پاس آنا۔ الغَشْوَة: غشو کا اسم مرة۔

۲۔ غَشِیَ ـَ غَشَیَانًا ہٗ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔

۳۔ غَشِیَ ـَ غَشَاوَةً الامرُ فلانًا: کو ڈھانکنا، کو کافی ہونا۔ ــ غَشَّا الفرسُ وغیرُہٗ: گھوڑے وغیرہ کا سر سفید ہونا۔ اسْتَغْشَی ثوبَه و بثوبه: خود کو کپڑے سے ڈھانپ لینا۔ الغَشْوَة و الغِشَاوَة: پردہ، ڈھکنا۔ (بتثلیث غین) غشاوة اللحاف: لحاف پوش۔ الأَغْشَی مونث غَشْوَاء من الخیل وغیرها: سفید بروالا گھوڑا وغیرہ۔

غشی: ۱۔ غَشِیَ ـَ غَشْیًا و غِشَایَةً الامرُ فلانًا: کو ڈھانکنا، چھپانا، پر آپڑنا۔ ــ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ــ الامرأة: عورت سے خلوت کرنا۔ غُشِیَ غَشْیًا و غُشْیًا و غَشَیَانًا علیه: بے ہوش ہو جانا۔ مَغْشِی علیه: بے ہوش۔ غَشَّی الشیَٔ و علی الشیٔ: کو ڈھانکنا۔ غَشَّیْتُهٗ الامرَ: میں نے اس سے بات کو چھپوا دیا۔ میں نے اس سے معاملہ پر پردہ ڈلوا دیا۔ اَغْشَی الامرَ فلانًا: سے کو ڈھکوا دینا۔ ــ اللیلُ: رات کا تاریک ہو جانا۔ الله علیه بصره: اللہ کا کسی کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا۔ تَغَشَّی بثوبه: اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ لینا۔ ــہٗ الامرُ: کو کام کا چھپا لینا۔ ــ المرأة: عورت کے پاس جانا۔ اسْتَغْشَی ثوبَهٗ و بثوبه: اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ لینا۔ الغِشَاء جمع أَغْشِیَة: پردہ الغِشَایَة والغُشَایة و الغُشْیَة: پردہ، ڈھکنا۔ ڈھکن۔ الغَشْیَة والغَشْیُ و الغُشْی و الغَشَیَان: غشی، بے ہوشی۔ الغَاشِیَة جمع غَوَاشٍ: غاشی کا مونث۔ پردہ۔ ڈھکنا۔ (ع ا): دل کا پردہ۔ قیامت، مصیبت، ایک اندرونی بیماری، غِشَائیات الأجْنِحَة (خ): چار پردوں والے حشرات جیسے شہد کی مکھیاں، بھڑیں وغیرہ۔

۲۔ غَشِیَ یَغْشَی غَشْیًا وغِشَایَةً المکانَ: کسی جگہ میں آنا۔ اَغْشَانِی فلانًا: اس نے مجھے فلاں کے پاس جانے پر اکسایا۔ الغِشْیَان: آنا۔ غَاشِیَةُ فلان: فلاں کے خادم، اس کے دوست اور ملنے والے جو اس کے پاس آتے رہتے ہوں۔

○ غَشَا ـُ غَشْوًا ہٗ: کے پاس آنا۔ ــ ھ: کسی جگہ پر آنا غَشِیَ ـَ غَشَاوَةً ہٗ / ھ: کو ڈھانپنا، ڈھکنا، لپیٹنا، چھپانا، کو نقاب اڑھانا، ــ ہ: کے پاس آنا، پر آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، اچانک حملہ کرنا، پر نازل ہونا، پر قابو پانا، کو زیر کرنا، کو گھیرے میں لے لینا، کو کچل دینا۔ ــ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ غَشِیَ ـَ غَشَیَانًا و غِشیَانا ہ: کے پاس آنا۔ ــ ھ: کسی جگہ پر آنا۔ ــ ہ / ھ: کو ملنے جانا، کو دیکھنے جانا۔ ــ ہ: سے ملاقات کو جانا۔ ــ ھا: (عورت) سے ہم بستر ہونا۔ ــھا: نر جانور کا مادہ جانور کو ڈھانپ لینا ــ ھ: (ظلم) کا ارتکاب کرنا ــ ھ: (خواہش، طلب) کے آگے جھک جانا۔ غُشِیَ علیه: بے ہوش ہونا، غش کھانا۔ غَشَّی ھ / ہ: بمعنی غشا یغشو ہ / ھ: نیز۔ ہ / ھ: پر چادر وغیرہ پھیلانا۔ ــ ھ: پر کوٹ کرنا، پلستر کرنا، ملمع کرنا، پتر چڑھانا۔ أَغْشَی: (رات کا) تاریک ہونا۔ ــ ہ / علی: پر چادر وغیرہ پھیلانا۔ تَغَشَّی ب: اپنے آپ کو سے ڈھانپ لینا۔ اپنے آپ کو میں لپیٹ لینا۔ اِسْتَغْشَی ثِیابَه: اپنے سر کو اپنے لباس میں چھپا لینا۔ غَشْیٌ و غُشْی: بے ہوشی، غشی، غَشْیَة: غشی۔ غَشْوَة: پردہ، چادر، شال، کھیس، ڈھکنا، سرپوش، آڑ، اوٹ، پوش، پوشش، غِشَاء جمع أغشیة: ڈھکنا، سرپوش، پوش، پوشش، چادر، شال، کھیس، ریپر wrapper لپیٹنے کا کاغذ، لپیٹا ہوا کاغذ، لفافہ، کوٹنگ، کوٹ، ملمع کرنا، پتر چڑھانا، جھلی، والو (valve) غِشَاوَة: پردہ، چادر، شال، کھیس، ڈھکنا، پوش، پوشش، غَشیان وغِشیان: بے ہوشی، غشی مَغْشَی: وہ جگہ جہاں کوئی آئے، کسی جگہ جانے کا مقصد۔ غَاشِیَة جمع غَوَاشٍ: بدقسمتی، بدنصیبی، بدبختی، حادثہ، مصیبت، آفت، سانحہ، بے ہوشی، غشی، بے حسی، مدہوشی، خدام، خدم و حشم، نوکر چاکر۔

غصّ: ۱۔ غَصَّ ـُ غَصَصًا بالطعام والماء: کھانے یا پانی سے پھندا لگنا۔ صفت غَاصٌّ و غَصَّانٌ ــ المکانُ بهم: کسی جگہ کا لوگوں سے بھر جانا، تنگ ہو جانا۔ أَغَصَّ ہٗ: کو پھندا لگوانا، کہا جاتا ہے۔ اَغَصَّ علینا الارضَ: اس نے ہم پر زمین تنگ کر دی۔ اِغْتَصَّ المکانُ بهم: کی وجہ سے کسی جگہ کا تنگ ہو جانا۔ الغُصَّة جمع غُصَص: جس سے پھندا لگے، گلوگیر، اندوہ، غم۔

۲۔ غَصَّ ـُ غَصًّا الشیَٔ: کو کاٹنا۔

○ غَصَّ ـَ غَصَصًا: گلے میں پھنس جانا، پھندا پڑ جانا، دم گھٹنا، سانس بند ہونا۔ ــ ب: کچھ کھاتے یا پیتے وقت

پھندا پڑ جانا یا گلے میں اڑ جانا۔ب: سے ٹھسا ہونا، بہت بھیڑ والا ہونا، ہجوم سے رک جانا یا بند ہوجانا، سے کچھا کھچ بھرا ہونا، کے (گاڑیوں موٹروں وغیرہ) سے بھرا ہوا ہونا، سے گنجان ہونا، گنجان آباد ہونا، سے لبالب بھرا ہونا غَصَّ بهم المكانُ: جگہ لوگوں کی وجہ سے بھری ہوئی تھی ۔اَغَصَّ ہ: کا گلا دبانا، گھونٹنا، کے گلے میں پھندا لگنے کا باعث ہونا۔ اِغْتَصَّ: بھیڑ یا بھیڑ والا ہونا، ہجوم والا ہونا، گنجان یا گنجان آباد ہونا، کھچا کھچ بھرا ہونا، لبالب بھرا ہونا، ٹھسا ہوا ہونا، رکا ہوا یا بند ہونا غُصَّة جمع غُصَّات وغُصَص: جس سے پھندا لگ جائے، گولا، جان لیوا تکلیف، اذیت، درد، سوحان روح، روحانی اذیت سخت امتحان، کڑی آزمائش، گلوگیر آواز، دبی ہوئی کراہ غُصَّةُ الموت: موت کی اذیت۔غاص ب: سے بھرا ہوا، رکا ہوا، ٹھسا ہوا، کھچا کھچ یا لبالب بھرا ہوا، سے پر ہجوم۔

غصب: ا۔غَصَبَ ـ غَصْبًاه على الشي: کو پر مجبور کرنا۔ الشئ: کو زبردستی چھین لینا صفت غاصب جمع غاصبون وغُصّاب ـ غَصَبَهُ مالَهُ: اس نے اس سے اس کا مال چھین لیا غصبت منه ماله: میں نے اس سے اس کا مال چھین لیا۔ المرأة: عورت سے زنا بالجبر کرنا، کی آبرو لوٹ لینا۔ غَاصَبَ ہ: ایک دوسرے سے چھیننا۔اِغْتَصَبَ الشيَ: کو زبردستی چھین لینا کو ظلم سے لے لینا المرأة نفسَها: عورت سے زنا بالجبر کرنا۔الغَصْب: زبردستی چھینی ہوئی چیز۔

۲۔ غَصَبَ ـ غَصْبًا الجلد کھال کے بال اور اون دور کرنا

غَصَبَ ـ غَصْبًا ہ ہ/من/ علی: سے کوئی چیز زبردستی یا غیر قانونی طور پر لے لینا، سے کوئی چیز (روپیہ، وعدہ) دھمکی کے ذریعے لینا ــــ ہ: کو لوٹنا ــ ہ ہ یا علی یا من سے کوئی چیز لوٹ لینا ــ ہ: کو غصب کرنا، پر ناجائز قبضہ کرنا ــــ ہ علی: کو پر مجبور کرنا ــ ها: (عورت) کو اغوا کرنا، کی عصمت دری کرنا ــــ علی: کو شکست دینا، زیر کرنا، فتح کرنا، کو مغلوب کرنا، قابو میں کرنا، دبانا، ہلکا کرنا، دھیما کرنا ــ اِغْتَصَبَ: بمعنی غصب ــ اِغْتَصَبَ ابوابَ البلاد: کسی ملک میں زبردستی داخل ہوجانا۔غَصْب: زبردستی یا ناجائز ضبطی، گرفت، قبضہ، غصب، ناجائز من مانی، خود مختاری، زبردستی جبر، دباؤ، استبداد، مجبوری۔غَصْبًا و بالغصب: زبردستی۔غصبًا عنه: اس کی مرضی کے خلاف، اس کی نافرمانی یا حکم عدولی کرتے ہوئے۔ اِغْتِصَاب: زبردستی یا ناجائز ضبطی، گرفت یا قبضہ، جبرًا لینا، استحصال، ڈاکہ، ناجائز تصرف، قبضہ، غصب، عصمت دری، آبرو ریزی، زنا بالجبر، زبردستی، مجبوری، ناجائز من مانی، خود مختاری، جبر، دباؤ، استبداد غَاصِب جمع غَاصِبُون وغُصَّاب: غاصب۔مَغْصُوب: غیر قانونی طور پر چھینا ہوا۔غصب شدہ، جبرًا لیا ہوا، زبردستی کیا ہوا، مجبور کیا ہوا۔ دباؤ ڈالا ہوا۔ مُغْتَصِب: تشدد آمیز، سخت ظالمانہ، حد سے بڑھا ہوا، وحشیانہ، بہیمانہ، سفاکانہ، غاصب۔

غصن: ا۔غَصَنَ ـ غَصْنًا الغُصنَ: ٹہنی کو کاٹنا، کھینچنا۔ الشيَ: کو لینا ــ ہُ عن حاجته: کو اس کی حاجت سے پھیرنا، روکنا، کہا جاتا ہے: ــ ماغَصَنَكَ عنّي: تجھے کس چیز نے مجھ سے مشغول کیا، کس چیز سے تیری توجہ مجھ سے ہٹائی۔غَصَّنَ و أَغْصَنَ ت الشجرةُ: درخت کا شاخدار ہونا۔الغُصن جمع غُصُون وأَغصان وغِصَنَة: ٹہنی، شاخ۔الغُصْنَة: شاخ میں نکلی ہوئی چھوٹی ٹہنی۔

۲۔ غَصَّنَ وأَغْصَنَ العنقودُ: خوشہ کا بڑے دانوں والا ہونا۔

۳۔ثورٌ أَغْصَن: بیل جس کی دم میں سفیدی ہو۔

غض: ا۔غَضَّ ـ غَضًّا وغَضَاضًا وغِضَاضًا و غَضَاضَةً طرفَهُ ومن طرفه اوصوتَهُ ومن صوته: اپنی نظر یا آواز کو پست کرنا، روکنا۔الغصنَ: شاخ کو پورا نہ توڑنا کہا جاتا ہے۔غَضَّ بصَرَهُ: اس نے اپنی نظر کو ان چیزوں کے دیکھنے سے روکا جن کا دیکھنا اس کے لئے جائز نہیں۔غَضَّ طرفَهُ لفلان: اس نے فلاں کی ناپسندیدہ چیز کو برداشت کیا۔غُضَّ لي ساعةً: میرے لئے اپنی سواری کو تھوڑی دیر روکے رکھو اور ٹھہرو۔تَغَاضَضَ عنه: سے غفلت برتنا۔ اِنغَضَّ الطرفُ: نگاہ کا بند ہونا۔الغَضَاض والغُضَاض: سر کا اگلا حصہ یا چہرے کا بالائی حصہ۔طَرْفٌ غَضِيضٌ جمع غِضَاء وأَغِضَّة م غَضِيضَة جمع غَضَائِض: پست نگاہ۔

۲۔غَضَّ ـ غَضًّا و غَضَاضًا و غِضَاضًا و غَضَاضَةً من فلان: کی قدر کو گھٹانا ــ الشيَّ: کو کم کرنا۔کہا جاتا ہے۔لاأَغُضُّكَ درهمًا: میں تجھے ایک درہم کم نہ کروں گا۔غَضَّضَ: ذلت وخواری لاحق ہونا۔ الغُضَّة جمع غُضَض والغَضِيضة والغَضَاضة جمع غَضَائِض و المَغَضَّة جمع مَغَاضّ: ذلت، نقص، کمی الغضيض جمع غِضَاء وأَغِضَّة م غَضِيضَة جمع غَضَائِض: ناقص، ذلیل۔

۳۔غَضَّ ـ غَضَاضَةً ضَاضَةً وغُضُوضَةً النباتُ وغيرُهُ: نباتات کا تروتازہ اور سرسبز ہونا صفت: غَضٌّ جمع غِضَاض۔غَضَّضَ: تازہ نازک ونرم ہونا، تازہ چیز کھانا۔الغَضُّ جمع غِضَاض: تروتازہ، نرم ونازک، کہا جاتا ہے۔شبابٌ غَضٌّ: ترو تازہ جوانی۔ الغَضِيض جمع غِضَاء و اَغِضَّة م غَضِيضَة جمع غَضَائِض: تروتازہ۔

۴۔غَضْغَضَ الماءَ: پانی کو کم کرنا۔تَغَضْغَضَ الماءُ: پانی کم ہونا، خشک ہونا۔

غَضَّ ـ غُضُوضَةً وغضاضةً: تروتازہ ہونا یا ہو جانا، رس بھرا یا رسیلا ہونا یا ہو جانا، نرم ونازک ہونا یا ہو جانا۔غَضّ غَضًّا و غَضَاضَةً ہ / من: اپنی آنکھیں یا نظر کو پاکبازی یا حیا سے نیچی کرنا، جھکا لینا۔ ــ من: کی قدر وقیمت یا وقار کو کم کرنا۔گھٹانا۔کی قدر گھٹانا، کم کرنا۔غَضَّ طرفَهُ: اپنی نظریں نیچی کرنا۔ غض النظرَ یا الطرف عنه: کو نظر انداز کرنا۔پر کوئی توجہ نہ دینا۔پر کوئی اعتراض نہ رکھنا، سے چشم پوشی کرنا۔غَضٌّ: نظر ہٹانا پھیرنا۔غَضّ النظر (الطرف) عنه: کو نظر انداز کرنا۔سے چشم پوشی کرنا، سے بے التفاتی کرنا۔بِغَضِّ النظر عن: سے قطع نظر، کے باوجود غَضّ: تروتازہ رسیلا، رس بھرا، نرم ونازک، گھنا اور طراوت والا، بہ افراط پیدا ہونے والا (پودا)۔ غُضَّة: خامی، کمزوری، نقص، عیب، خرابی، کوتاہی کمی۔ غضيض: تروتازہ، رس بھرا، رسیلا، نرم ونازک۔غضاضة: تروتازگی، رسیلا پن، نرمی ونزاکت، خامی، کمزوری، کوتاہی، نقص، عیب، کمی، داغ، دھبا، بے عزتی، ذلت، رسوائی، فضیحت، شرمندگی۔ما وجد غضاضةً في: پر کوئی اعتراض نہ کرنا، ناراض نہ ہونا۔غُضُوضَة: تروتازگی، رسیلا پن، رس بھرا ہونا، نرمی ونزاکت۔

غضب: ا۔غَضِبَ ـ غَضَبًا و مَغْضَبَةً عليه: سے بغض رکھنا، پر غضبناک ہونا، صفت فاعلی غَضِب و غَضُب وغَضُوب وغَضْبان مونث غَضْبَى و غَضُوب و غَضْبَانَة جمع غَضْبَى و غِضَاب و غَضَابَى و غُضَابَى: صفت مفعولی: مَغْضُوب عليه: کہا جاتا ہے غَضِب لفلان: وہ فلاں کی وجہ سے کسی، دوسرے پر غضبناک ہوا۔غَضِبَ من لا شيء: وہ بلاوجہ غصہ ہوا۔غَاضَبَ مُغَاضَبَةً ہُ: کو غصہ کرنے پر بھڑکانا ــــ فلانًا: سے غصہ سے علیحدگی اختیار کرنا۔غَاضَبْتُهُ: اس نے مجھے ناراض کیا میں نے اس کو ناراض کیا۔أَغْضَبَهُ: کو غصہ دلانا۔تَغَضَّبَ و اِسْتَغْضَبَ عليه: پر غضبناک ہونا۔الغَضْبَة: غضب کا اسم مرۃ۔الغُضَابِيّ: بدمزہ زندگی بسر کرنے والا۔

الغُضب و الغُضبَّة و الغَضبَّة: غضبناک
۲۔ اِغْضَبَ ت العینُ: آنکھ کا اپنا تنکا وغیرہ نکال ڈالنا۔
الغِضاب و الغُضاب: آنکھ کا تنکا۔
۳۔ الغَضبَةُ: مچھلی کی کھال، سر کی کھال۔
غَضِبَ ـَ غضَبًا من علی: پر ناراض ہونا، غصہ ہونا، سے خفا ہونا، بگڑا ہوا ہونا، پر جھنجھلایا ہوا ہونا، پر پریشان ہونا، سے تنگ ہونا، پر برافروختہ ہونا، پر بھڑکا ہوا ہونا، مشتعل ہونا، پر طیش میں ہونا۔۔۔ ل: کا دفاع کرنا، کے لئے جدوجہد کرنا، غاضَبَ ہٗ: سے بگڑا ہوا ہونا، سے برے تعلقات ہونا۔ أغْضَبَ ہٗ: کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، دق کرنا، مشتعل کرنا، ناراض کرنا، کو غصہ دلانا، طیش میں لانا۔ تغضّب بمعنی غَضِبَ۔۔۔ غَضَب سخت غصہ، غضب طیش، قہر، غیظ، غصہ، اشتعال، برہمی، غَضبة بدمزاجی کا غلبہ۔ غصہ کی لہر، ناراضگی کا اظہار، غضُوب۔ زود، رنج، چڑچڑا، تنک مزاج، جلد غصے میں آ جانے والا۔ غَضبًا ل: کی حفاظت کیلئے۔

غضر: ۱۔ غَضَر ـِ غَضرًا ہُ اللّٰہُ: کو اللہ تعالیٰ کا خوشحال و آسودہ کرنا۔۔۔ ـِ غضرًا لغلان من مالہ: کو اپنے مال میں سے کچھ دینا۔۔۔ علیہ: کی طرف مائل ہونا۔ غَضِرَ ـَ غَضَرًا و غَضارَةً: آسودہ حال و مال دار ہونا، عمدہ زندگی والا ہونا صفت: غَضِر۔ اغتُضِرَ: جوان مرنا۔ الغَضار: خالص چپکنے والی مٹی، چکنی مٹی کا بنا ہوا پیالہ۔ سبز رنگ کی ٹھیکری جو نظر بد سے بچاؤ کے لئے رکھتے ہیں۔ الغَضارة (مص): جمع غضائر: نعمت عمدہ زندگی، فراخی و خوشحالی، خالص مٹی، نظر بد سے بچاؤ کیلئے سبز ٹھیکری۔ الغَضراء من الاراضی جمع غَضارِیّ: زرخیز، عمدہ زمین، خالص مٹی کی زمین، قطاة: پرندہ کو بھی غضراء کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ هم فی غضراء من العیش: وہ آسودہ حالی میں ہیں۔ الغَضِیرُ: نرم و نازک، سبز رنگ والا۔ ارضٌ غَضِیرَةٌ: خالص مٹی والی زمین۔ المُغْضِر جمع مُغْضِرون و المَغْضُور جمع مغضورون و مغاضیر: صاحب نعمت و خوشحالی و آسودہ حال۔
۲۔ غَضَر ــُ غَضرًا الرجلَ: کو روکنا منع کرنا۔۔۔ الشیءَ: کو کاٹنا۔۔۔ ـِ غَضرًا و تغضّر عنہ: سے ہٹنا، پھرنا۔ الغاضِر (فا) م غاضِرة: مانع، روکنے والا۔
۳۔ الغاضِر م غاضِرة: عمدہ رنگی ہوئی کھال۔ اپنی ضروریات کیلئے صبح سویرے جانے والا۔ الغَضارَة جمع غضائر: بڑا پیالہ۔

۴۔ الغَضْرُوف: غُرضوف کے تمام معانی کے ساتھ دیکھو غُرضوف۔
غضر ـ غضرًا عن: سے پھرنا، ہٹنا۔۔۔ علی: کا مخالف ہو جانا یا کا رخ کرنا۔ غَضِرَ ـَ غَضَرًا: امیر ہونا یا ہو جانا، وافر، فراواں، کثیر یا بہت ہونا یا ہو جانا، بہت امیر ہونا یا ہو جانا، گھنا اور طراوت والا ہونا یا ہو جانا، با افراط پیدا ہونے والا ہونا یا ہو جانا۔ غَضِر: وافر، فراوان، کثیر، بہت، رئیس، بہت امیر، گھنا اور طراوت والا، با افراط پیدا ہونے والا۔ غَضِیر: تر و تازہ، سبز (پودا)۔ غَضارة: تر و تازگی، افراط، فروغ، امارت، دولتمندی، تمول، غضروف جمع غضاریف: چپنی ہڈی، مرمری ہڈی، کری ہڈی۔

غضف: ۱۔ غَضَفَ ـِ غَضْفًا العودَ: لکڑی توڑنا۔۔۔ الکلبُ اُذُنَہ: کتے کا اپنے کانوں کو ڈھیلا کرنا۔۔۔ الوسادةَ: تکیہ موڑنا۔ غَضِفَ ـَ غَضَفًا ت الاذنُ: کان کا پیدائشی ڈھیلا ہونا۔ صفت غَضْفاء جمع غُضْف۔ غَضَّفَ الشیءَ: کو لٹکانا۔ تَغَضَّفَ ت الجاریةُ: لڑکی کا مٹک مٹک کر ناز و انداز سے چلنا۔ ت الحیّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔۔۔ ت البئرُ: کنویں کا گرنا۔ ت اذنُہ: کے کان کا ٹوٹنا۔ الغاضِف: وہ کتا جس کے کان کا بلند حصہ آگے کو جھکا ہوا ہو۔ الأغضف م غضفاء جمع غُضف: ڈھیلے کان کا کتا۔
۲۔ غَضَفَ ـِ ف غُضُوفًا: آسودہ حال ہونا۔ غَضِفَ ـَ غَضَفًا العیشُ: زندگی کا خوشگوار ہونا صفت: اغضف و غاضِف۔ تغضّفَ ت الدنیا علیہ: دنیا کا کی طرف رخ کئے ہوئے ہونا اور دولت کا اس پر کرم فرما ہونا۔ الغاضِف (فا): آسودہ حال خوش عیش۔ عیش أغضف م غضفاء جمع غُضف: عیش و عشرت کی زندگی، خوشحالی اور آسودگی کی زندگی۔
۳۔ غَضِفَ ـَ غَضَفًا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ أغضَفَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔۔۔ السحابُ: بادل کا نمودار ہونا، جس سے پتہ چلتا ہو کہ بارش ہو گی۔ تغضّفَ علیہ اللیلُ: کو رات کا آ لینا۔ تغضّفَ الضبابُ: کہر کا تہ بتہ ہونا۔ القومُ فی الغبار: لوگوں کا گرد و غبار کی لپیٹ میں آنا۔ الأغضَفُ م غضفاء جمع غُضف: تاریک رات، موٹے پروں کا تیر۔ الغَضَفَة (ح): قطاة سے مشابہ ایک پرندہ۔

غضن: ۱۔ غَضَنَ ـُ غَضنًا ہُ عن کذا: کو سے روکنا منع کرنا۔
۲۔ غَضَنَ ـُ غَضنَانًا ت الناقةُ: اونٹنی کا کچا بچہ گرانا۔ اسم الغِضان۔ غَضَّنَت الناقةُ: اونٹنی کا کچا بچہ گرانا۔ الغَضِین: اونٹنی کا گرایا ہوا کچا بچہ۔
۳۔ غَضَّنَ ت السماءُ: آسمان کا لگاتار بارش برسانا۔ أغضَنَ علیہ اللیلُ: پر رات کا تاریک ہونا۔۔۔ السحابُ: بادل کا لگاتار برسنا۔ ت علیہ الحُمّیٰ: کا بخار تیز ہونا اور چڑھا رہنا۔
۴۔ غَضَّنَ الشیءَ: کو موڑنا، میں شکن اور سلوٹیں ڈالنا۔ غاضَنَ مُغاضَنةً عینَہ: آنکھ کو جھپکانا۔۔۔ المرأةَ: آنکھ جھپکا کر عورت سے باتیں کرنا۔ تَغَضَّنَ: مڑنا شکن دار اور سلوٹ دار ہونا۔ الغَضْن و الغَضَن جمع غُضون: کھال، زرہ یا کپڑے وغیرہ کی شکن و سلوٹ، تھکن، سختی، مشکل غَضَنُ العین: آنکھ کی ظاہری کھال۔ غُضُون الاذن: کان کی سلوٹیں کہا جاتا ہے رجلٌ ذو غُضُون: سلوٹوں والی پیشانی والا آدمی کان الامرُ فی غُضُون ذلك: معاملہ اسی اثناء میں ہوا۔ الغَضْنة و الغَضَنة (طب): چیچک کے داغ پر آنے والا باریک چھلکا۔ الأغضَن: کھچی ہوئی آنکھ والا۔
۵۔ الغَضَنفَر (ح): شیر، بھاری جسم والا۔
غَضَّنَ ہ: پر جھریاں ڈالنا، شکن ڈالنا، کو سکیڑنا، سکوڑنا، چرمر کرنا، تہ کرنا، میں سلوٹ یا شکن ڈالنا۔ غاضَنَ ھا: عورت کو بری نیت سے آنکھ مارنا۔ تغضّنَ: جھریاں پڑنا، شکن پڑنا، سکڑنا، چرمر ہو جانا، سلوٹیں اور شکنیں پڑ جانا، جھریوں والا ہونا یا ہو جانا، سلوٹ یا شکن والا ہونا یا ہو جانا، تہ بتہ ہونا، جھری، شکن یا سلوٹ دار ہونا یا ہو جانا۔ غَضْن و غَضَن جمع غُضُون: جھری، تہ، سلوٹ، شکن، مصیبت مشقت، سختی مشکل۔ فی غضون: کے دوران، کے اثناء میں، کے اندر اندر، کے اندر ہی۔ غضون ذلك: دریں اثناء، اس دوران میں، اس اثناء میں۔

غضو: غَضا ـُ غَضْوًا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔۔۔ البعیرُ: اونٹ کا درخت غضا چرنا، صفت: غاضٍ۔۔۔ غُضُوًّا: نعمت و خوشحالی میں ہونا۔ صفت غاضٍ مونث غاضِیة جمع غَواضٍ۔

غضی: ۱۔ غَضِیَ ـَ غَضًی البعیرُ: درخت غضا چرنے سے اونٹ کے پیٹ میں درد ہونا صفت غَضٍ مونث غَضِیَة جمع غَضایا۔ ت الارضُ: زمین کا درخت غضا کی بہتات والا ہونا۔ الغَضا جس کا واحد غَضاة ہے (ن) جھاؤ کا درخت، جھاڑی۔ اھلُ الغضا: نجد کے رہنے والے۔ ذئبُ الغضا: خباثت اور دھوکہ بازی کی مثل۔ الغاضِیَة جمع غَواضٍ: تاریک، روشن (ضد) کہا جاتا ہے۔ نارٌ غاضِیَةٌ: روشن آگ، آگ

الغضیاء: جھاڑ کے درخت اگنے کی جگہ۔ ارضٌ غَضیاء: بہت جھاؤ کے درختوں والی زمین۔

۲۔ اَغْضی اِغْضَاءً اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ صفت غاضٍ (خلاف قیاس) ـــ عینَہٗ: آنکھ بند کرنا۔ موندنا۔ ـــ علی الامر: پرخاموش رہنا اور صبر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ اَغْضی عنه طرفَهٗ: سے نگاہ پھیرلی۔ کہا جاتا ہے۔ أغضی علی القذی: پرصبر کرکے معاف کر دینا کو نظر انداز کر دینا، سے عمداً احتراز کرنا۔ تَغَاضَی: آنکھیں بند کرنا۔ ـ عنه: سے غفلت برتنا۔ العاضِیة جمع غَوَاضٍ: غاضی کا مونث تاریک، روشن (ضد)۔ کہا جاتا ہے۔ لیلةٌ غاضِیَةٌ یعنی تاریک رات

اَغْضَی: اپنی آنکھ بند کر لینا۔ ـ عَیْنَہٗ: اپنی آنکھیں بند کر لینا۔ ـ ه / عن: کو نظر انداز کر دینا، کو دیکھنے سے گریز کرنا، پر التفات نہ کرنا، کی پرواہ نہ کرنا، کا لحاظ نہ کرنا، کو معاف کرنا، پر آنکھیں بند کر لینا، کو نہ دیکھنا۔ ـ عن: سے نرمی کا برتاؤ کرنا، پر شفقت کرنا، کرم کرنا کو برداشت کرنا، سے چشم پوشی کرنا، اغماض کرنا، تغاضی عـــن: کو نظر انداز کرنا، ظاہر کرنا کہ اس نے کو نہیں دیکھا۔ تَغَاضَی عنه بمعنی اَغْضی عنه: ظاہر کرنا کہ اس نے اسے نہیں دیکھا۔ عَلَی احرّمِن جمر الغضی: ناقابل برداشت صورت حال میں ہونا، سخت مضطرب لفظی ترجمہ، جھاؤ کے انگاروں سے زیادہ گرم جگہ پر۔

غط: غَطَّ ـِ غَطًّا الشیءَ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا، غوطہ دینا۔ ـــ ـُ غَطَّاهٗ: کو زور سے نچوڑنا۔ اَغَطَّ الشیءَ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا، غوطہ دینا۔ تَغَاطَّ الرجلان فی الماء: ایک دوسرے کو پانی میں غوطہ دینا

۲۔ غَطَّ ـِ غَطِیْطًا النائمُ: سونے والے کا خراٹے لینا۔ ـ البعیرُ: اونٹ کا بلبلانا۔

۳۔ الغَطَاط واحد غَطَاطة (ح): قطا پرندے کی ایک قسم۔ ـ الغُطَاط: صبح کا ابتدائی حصہ۔ اُغْطَیْطَة: کہر (عام زبان میں)۔

۴۔ غَطْغَطَ غَطْغَطَةً ت القِدرُ: ہانڈی کا بہت ابلنا۔ ـ البحرُ: سمندر کی موجوں کا بلند اور شدید ہونا۔ ـــ النوم علی فلانٍ: پر نیند کا غلبہ ہونا۔ تَغَطْغَطَ البحرُ: سمندر کی موجوں کا بلند اور شدید ہونا۔ ـــ الشیءُ: بکھرنا، متفرق ہونا۔ الغَطْغَطَة (مص): بہت تیز کی آواز کی نقل کرنا۔ الغَطَاغِط: واحد غُطْغُط (ح): بکری کے مادہ بچے۔

غَطَّ ـُ غَطًّاه / ه فی: کو میں ڈبونا، ڈوبا دینا، کو میں یکا یک گھسیڑنا، غَطَّ ـِ غَطِیطًا: خراٹے لینا۔ اَغَطَّ ه / ه فی: کو میں ڈبونا، ڈوبا دینا، گھسیڑنا۔ اِنْغَطَّ فـــی: میں ڈوبنا، ڈوبا دیا جانا، یکا یک گھسیڑا جانا۔ غَطِیط: خراٹے، خراٹے لینا غُطَیْطَة: کہر، کہرا، سخت دھند، دھند

غطر: ۱۔ غَطْرَسَ غَطْرَسَةً علی فلان: کے سامنے تکبر کرنا۔ ـــ الرجلُ: اپنے ہم عصروں پر دست درازی کرنا۔ ـــ بالشیء: پرخوش ہونا، تعجب کرنا۔ ـــ تَغَطْرَسَ: اترانا، متکبرانہ انداز سے چلنا۔ الغِطْرِس جمع غطارِس و الغِطْرِیس ج غَطَارِیس: متکبر، خود پسند۔

۲۔ غَطْرَسَ غَطْرَسَةً ه: کو غضبناک کرنا تَغَطْرَسَ: غضبناک ہونا۔

۳۔ تَغَطْرَسَ: بخل کرنا۔

۴۔ غَطْرَشَ اللیلُ بصرَهٗ: رات کا آنکھ کو تاریک کر دینا۔ ـ بصرُهٗ: آنکھ کا تاریک ہونا۔

۵۔ تَغَطْرَفَ: متکبرانہ چال چلنا، تکبر کرنا الغَطْرَفَة: تکبر۔ الغِطْراف و الغِطْرِیف جمع غَطَارِفة و غَطَارِیف: خوش طبع جوان، سخی، سردار خوب صورت، دولتمند۔ الغِطْرَوف و الغُطْرُوف: خوش طبع جوان۔ خوبصورت

۶۔ الغِطْرِیف جمع غَطَارِیف (ح): باز کا بچہ۔ (ح): مکھی۔

غَـطْـرَسَ: مغرور، متکبر، خود پسند، نخوت پسند نک چڑھا، اپنی مرضی کے تابع کرنے والا، امارت پرست، پرغرور یا خود بین و برخود غلط ہونا۔ تَـغَـطْـرَسَ بمعنی غَطْرَسَ۔ تَغَطْرَسَ فی مِشْیَتِهٖ: اترا کے چلنا، اکڑ کے چلنا، اینٹھ کر چلنا، مغرور رویے یا وطیرے کا مظاہرہ کرنا۔ غَطْرَسَة: غرور، تکبر، خود پسندی، خود بینی، اکڑ، گستاخی، بے شرمی، بے حیائی، امارت پرستی غِطْرِیس جمع غَطَارِیس: مغرور، متکبر، اکڑفوں، اپنی مرضی کے تابع کرنے والا، نک چڑھا، امارت پرست سا، خود پسند، پرغرور، برخود غلط، خود بین۔ مُتَغَطْرِس بمعنی غِطْرِیس۔ غِطْرِیف جمع غَطَارِیف و غَطَارِف و غَطَارِفة: طاقت ور حکمران، نواب، راجا، شریف عظیم اور مشہور شخص۔

غطس: غَطَسَ ـِ غَطْسًا فی الماء: پانی میں ڈوبنا۔ ـ فی الاناء: برتن پر منہ لگا کر پینا۔ ـ هٗ فی الماء: کو پانی میں غوطہ دینا غَطَّسَ هٗ فی الماء: کو پانی میں غوطہ دینا ـــ تَغَاطَسَ القومُ فی الماء: ایک دوسرے کو پانی میں غوطہ دینا۔ ـ الرجلُ: غفلت برتنا الغاطِس (فا) لیل غاطِسٌ: تاریک رات الغاطِسَة جمع غَوَاطِس: غاطِس کا مونث الغِطَاس عند النـصـاری: نصرانیوں کی ایک عید، عید ظہور الٰہی۔ الـغَـطَّـاس پانی کی گہرائی میں غوطہ لگانے والا۔ اسے غَـوَّاص بھی کہتے ہیں۔ (ح) غوطہ خور پرندہ۔ الـغُـطُـوس لڑائیوں میں پیش قدمی کرنے والا۔ التَغْطِیس (مص) عند المسیحیین: بپتسمہ دینے کی ایک قسم۔ باقی دو قسمیں الشَکْب اور الرش کہلاتی ہیں۔ الـمَغْطِـس: غوطہ لگانے کی جگہ۔ المِغْطَس جمع مَغَاطِس: غوطہ دینے کا ایک بڑا برتن۔

غَطَسَ ه / ه فی: کو پانی میں ڈوبا دینا کو اچانک پانی میں گھسیڑ دینا، کو پانی میں ڈبونا۔ ـ فی: پانی میں ڈبکی لگانا، غوطہ مارنا، یکا یک کود پڑنا یا چھلانگ لگانا، غوطہ لگانا، ڈوبا ہوا ہونا، ڈوبنا۔ غرقاب یا غرق ہونا، زیر آب ہونا۔ غَطَّسَ ه / ه فی: کو پانی میں ڈبکی دینا، غوطہ دینا، ڈبونا۔ ـــ ه: کو بپتسمہ دینا، اصطباغ دینا۔ تَغَطَّسَ: غوطہ لگانا۔ ـــ فی: میں نہانا غِطَاس: اصطباغ۔ الغِطَاس: نصاری کی ایک عید الـمَغْطَس بھی کہتے ہیں۔ غَطَّاس: غوطہ خور (آدمی یا پرندہ) مَغْطَس جمع مُغَاطِس: نہانے کا ٹب (Bath-tub) پانی میں چھلانگ لگا کر نہانا۔ (Plunge bath) تغطیس: ڈوبا دینا، پانی میں یکا یک گھسیڑنا۔ ڈبونا، بپتسمہ، اصطباغ۔

غطش: ۱۔ غَطَشَ ـِ غَطْشًا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا، صفت۔ غَاطِش و اَغْطَش، غَطِشَ ـَ غَطَشًا: کمزور نظر والا ہونا۔ دھندلی نظر والا ہونا صفت اَغْطَش و غَطِش م غَطْشَاء و غَطِشَة جمع غُطْش و غَطِشات اَغْطَشَ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ـــ اللّٰهُ اللیلَ: اللہ تعالیٰ کا رات کو تاریک کرنا۔ تَغَطَّشَ ت عینُهٗ: کی نگاہ کا کمزور ہونا۔ تَغَاطَشَ عنه: سے جان بوجھ کر اندھا یا غافل بننا۔ اِغْطَاشَّ: کمزور نظر والا ہونا۔ الغَطَش فی العین: سیلان اشک کے ساتھ نظر کی کمزوری۔ الغُطَاش: رات کی تاریکی لیلةٌ غَطْشَاء: تاریک رات۔ فلاةٌ غَطْشَاء و غَطِش و غَطْشَی: بے راستہ اور بے آب ریگستان کہا جاتا ہے: رکبنا فلاةً غُطْشَی و نحن کرملها عَطْشَی: ہم ایک بے راستہ اور بے آب ریگستان میں گئے۔ ہم اس ریگستان کی ریت کی طرح پیاسے تھے۔

۲۔ غَطَشَ ـِ غَطْشًا و غَطَشَانًا: کسی بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلنا۔

غَطَش: دھندلی نظر

غطف: ۱۔ غَطِفَ ـَ غَطَفًا: پلکوں کا دراز ہونا اور مڑ

جانا صفت اَغْطَف مونث غَطْفاء جمع غُطف۔ الغَطَف (مص): زندگی کی آسودگی وفراخی۔ الأغْطَف من العیش: آسودہ زندگی۔

غطم: ا۔ الغِطَمّ: بڑا سمندر، وسیع الاخلاق آدمی۔ بڑا جمگھٹا۔

۲۔ غَطْمَطَ البحرُ: سمندر کا بڑی بڑی موجوں والا ہونا۔ ــ ت القدرُ: ہانڈی کا ابلنا۔ ــ السیلُ: سیلاب کا نیچے گرتے وقت آواز پیدا کرنا تَغَطْمَطَ البحرُ: سمندر کا بہت زوروں کا ہونا اور اس کی موجوں کا بلند ہونا۔ ــ الصوتُ: آواز کا بیٹھ جانا۔ بحرٌ غامِطٌ: بلند موجوں والا سمندر۔

۳۔ الغَطْمَطم: بڑا سمندر

غطو: غطا ـُ غَطْوًا و غُطُوًّا الشئَ: چیز کو چھپانا، ڈھانکنا۔ الماءُ و غیرُہُ: پانی وغیرہ کا بلند ہونا۔ ــ اللیلُ: رات کی تاریکی کا ہر چیز کو چھپالینا۔ غَطّٰی تَغْطِیَةً الشئَ: کو چھپانا، ڈھانکنا۔ اَغْطٰی اِغْطاءً الشئَ: کو چھپانا، ڈھانکنا ــ الکرمُ: انگور کی بیل میں پانی جاری ہونا اور اس کی شاخوں کا دراز ہونا۔ تَغَطّٰی و اِغْتَطٰی: چھپنا۔ الغِطاءُ جمع اَغْطِیَة: پردہ۔ ڈھکن۔ الغِطایَة: عورت کی کرتی، بنیان۔

غطی: غَطٰی ـِ غَطْیًا و غُطِیًّا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا ــ الشئَ و علی الشئ: کو چھپانا، کے اوپر ہونا ــ الشبابُ: جوانی کا بھرنا، بھرپور ہونا ــ الماءُ: پانی کا بہت ہونا۔ صفت غاطٍ۔ ــ الشجرُ: درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا۔ اَغْطٰی ہُ: کو چھپانا۔ الشجرُ: درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا۔ الغاطِیَة غاطی کا مونث، انگور کی بیل۔

○ غطا ـُ غَطْوًا ہ: کو ڈھانپنا، ڈھانکنا، کو چھپانا، کو اوپر ڈالنا غَطّٰی ہ/ ہ ب: کو سے ڈھانپنا، ڈھانکنا، کو سے چھپانا، کو سے لپیٹنا۔ ہ ب: کسی چیز پر کسی اور چیز کا سرک آنا، کو سے ڈھانکنا، ڈھانپنا ــ ہ: اخراجات وغیرہ کے لئے کافی ہونا ــ علی: کو ماند کرنا، سے کہیں زیادہ روشن ہونا، سے بازی لیجانا، کو تاریک کرنا، کو مبہم بنانا، (شور وغیرہ کا) آواز کو دبالینا، سے زیادہ مضبوط وقوی ہونا، سے زیادہ فیصلہ کن ہونا۔ تَغَطّٰی ب: سے ڈھکا ہونا، ڈھانپا ہونا، سے لپٹا ہونا، سے چھپا ہونا، سے اپنے آپ کو ڈھانپنا، میں اپنے آپ کو لپیٹنا، سے اپنے آپ کو چھپانا، سے پردہ کرنا اِغْتَطٰی: بمعنی تَغَطّٰی۔ غطاء جمع اَغْطِیَة: ڈھکنا، سرپوش، پوش، پوشش، چادر، شال، کھیس، وغیرہ ریپر، لپٹا ہوا کاغذ Wrapper لپیٹنے کا کاغذ Wrapping، لفافہ، لباس

تَغْطِیَة: (اخراجات وغیرہ کیلئے) کافی ہونا، نوٹوں کی کوریج Note Coverege

غف: ا۔ غَفَّ الطائِرُ (عند العامة): پرندہ کا گر پڑنا (سریانی لفظ ہے)

۲۔ تَغَفَّفَ ت الدابّةُ: جانور کا موسم کے چارہ پر پہنچنا۔ ــ الاناءَ او الضَرعَ: برتن یا تھن کے باقیماندہ کو لینا۔ اِغْتَفَّ ت الدابّةُ: جانور کا موسم بہار کے چارہ کو پہنچنا، چارہ کھانا۔ ــ فلانًا: کو کچھ دے دینا۔ الغَفَف: سوکھے پتے۔ الغُفَّة: اونٹ کا جلدی میں کھایا جانا والا چارہ۔ آسودہ زندگی، خوراک کی کفایت۔ غُفَّة الاناء او الضرع: برتن یا تھن میں بچی ہوئی چیز یا دودھ

○ غَفَّ ـُ غَفًّا: بے خبری میں جالینا ــ علی: کو پکڑنا، زبردستی لینا۔

غفر: ا۔ غَفَرَ ـِ غَفْرًا و غَفِیرًا و غَفِیرَةً و غُفْرانًا و مَغْفِرَةً و غُفُورًا لہ الذنبَ: کا گناہ چھپانا، معاف کرنا۔ الامرَ: کام یا بات کی اصلاح کرنا ــ غَفْرًا الشئَ: کو چھپانا ــ الشیبَ بالخضاب: بالوں کی سفیدی کو خضاب سے چھپانا۔ غَفَّرَ الشئَ: کو ڈھانکنا، کو چھپانا ــ الرجُلَ: کو غفر اللہ کہنا اَغْفَرَہُ: کو چھپایا۔ تَغافَرُوا: ایک دوسرے کی مغفرت کی دعا کرنا۔ اِغْتَفَرَ اللہُ ذنبَہُ: اللہ کا کسی کا گناہ بخشنا۔ اِسْتَغْفَرَ اللہَ الذنبَ و مِنَ الذنب: اللہ تعالیٰ سے گناہ کی بخشش مانگنا الغَفْرَة: ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کو چھپائیں کہا جاتا ہے۔ غَفَرَ الشئَ بغُفْرَتِہ: اس نے چیز کی اس چیز سے اصلاح کی جس سے اصلاح کرنی چاہئے تھی المِغْفارَة: ایک قسم کا خود جو سپاہی کلاہ کے نیچے پہنا کرتا ہے۔ ٹکڑا جس سے کمان کے گوشہ کو لپیٹتے ہیں۔ عورت کے بال چھپانے کی اوڑھنی، ہر وہ شے جس سے کسی دوسری چیز کو چھپائیں الغِفارَة: وسیع چادر یا جبہ جس کو احبار یہود اور پادری پہنتے ہیں۔ الغَفُورُ: مذکر و مونث کیلئے الغَفّار م غَفّارَة: بہت مغفرت کرنے والا۔ بہت بخشنے والا (اللہ تعالیٰ کے آسماء حسنہ میں سے ہیں) اور معنی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کا پردہ پوشی کرنے والا اور ان کی غلطیوں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا۔ الغَفِیر (مص): کہا جاتا۔ جاؤ واجَمًّا غَفِیرًا و جمَّ الغفیر والجمّ الغفیرَ: وہ سب (شریف اور رذیل) آئے۔ الغَفِیرَة (مص): اصلاح کا ذریعہ، کثرت، زیادتی المِغْفَرُو المِغْفَرَة جمع مَغافِر: خود

۲۔ غَفِرَ ــ و غَفَرَ ـِ غَفَرًا المریضُ: بیمار کا گئی ہوئی بیماری میں پھر مبتلا ہونا ــ الجرحُ: زخم کا دوبارہ کھل جانا۔ غَفِرَ المریضُ: بیمار کا گئی ہوئی بیماری میں پھر مبتلا ہو جانا

۳۔ غَفِرَ ـَ غَفَرًا و اِغْفارًّا الثوبُ: کپڑے کا روئیں دار ہونا۔ الغَفَر: کپڑے کا رواں ــ و الغَفار: گردن، رخساروں اور گدی پر ہونے والے بال، جو روئیں دار ہوں۔ الغَفَر بمعنی غَفَر: چھوٹی چھوٹی گھاس۔ الغَفِر: روئیں دار، کہا جاتا ہے۔ رجلٌ غَفِرُ القفا وامرأةٌ غَفِرَةُ الوجہ: یعنی مرد جس کی گدی پر اور عورت جس کے چہرے پر روئیں دار بال ہوں۔ الغَفِیر (مص): سبزہ کے بال۔

۴۔ اَغْفَرَ الرِمْثُ: کڑوے پودے کا گوند نکالنا۔ تَغَفَّرَ: درختوں سے گوند جمع کرنا۔ المِغْفَر و المُغْفُر و المُغْفُور جمع مَغافِر و مَغافِیر: درخت سے بہنے والا گوند۔

۵۔ الغَفْر (فلك): تین چھوٹے ستارے ــ و الغُفْر جمع غِفَرَة و اَغْفار و غُفُور (ح): پہاڑی بکری کا بچہ۔ الغِفْر (ح): گائے کا بچہ۔ الغِفار: رخسارہ پر نشان۔ المُغْفِرَة (ح): پہاڑی بکری جو بچہ والی ہو۔

○ غَفَرَ ــ غَفْرًا و مَغْفِرَةً و غُفْرانًا ل ہ: کو کچھ معاف کردینا، بخش دینا ــ ہ ل: کو کی معافی دینا۔ ہ: کو بخشنا، کم کرنا لا یُغْفَر: ناقابل معافی، ناقابل عفو۔ اِغْتَفَرَ ل ہ: کو کچھ معاف کردینا، بخش دینا۔ ل ہ: کو کی معافی دینا ــ ہ: کو بخش دینا، کم کرنا۔ لایُغْتَفَر: ناقابل معافی، ناقابل عفو۔ اِسْتَغْفَرَ ہ ل/ من/ ہ: (گناہ وغیرہ) کے لئے کسی سے معافی طلب کرنا)، سے درخواست کرنا کہ وہ (گناہ غلطی وغیرہ) معاف کردے، سے کیلئے معذرت کرنا، عذرخواہی کرنا۔ اَستغفرُ اللہ: میں اللہ سے معافی/بخشش طلب کرتا ہوں، (مختلف مواقع پر کہا جاتا ہے۔ خصوصاً تعریف، داد و تحسین پر، کو شرافت و انکسار سے مسترد کرتے ہوئے گویا یہ کہنا: مہربانی کرکے ایسا نہ کہئے یا بالکل نہیں) غَفْر: معافی، بخشش، عفو و درگزر غَفْرًا: مجھے معاف کردیں، میں آپ سے معافی کا طالب ہوں۔ غَفُور: معاف کرنے پر بخوشی مائل، بہت معاف کرنے یا بخش دینے والا (اللہ تعالیٰ کے لئے خصوصی طور پر استعمال ہوتا ہے) غَفّار: معاف کرنے پر بخوشی مائل، بہت معاف کرے یا بخش دینے والا (اللہ تعالیٰ کے لئے خصوصی طور پر آتا ہے) غُفْران: معافی، بخشش، کرعید صوم الغفران یا عید الغفران: عید کفارہ (عیسائیوں کی) مَغْفِرَة: معافی، بخشش، کی المغفور لہ: مرحوم، متوفی، آنجہانی لفظی

معنی جس کو معاف کر دیا گیا، بخش دیا گیا) غَفَرَ علی: کی حفاظت کرنا، کو بچائے رکھنا، کی نگہبانی کرنا۔ غَفْرَة: ڈھکنا، غَفِیر: بہت (ہجوم) وافر (مقدار) بڑی (تعداد جمع غُفَراء: محافظ، سنتری، چوکیدار، جمٌّ (جمع) غفیر: بڑی تعداد یا مقدار، لوگوں کا بڑا اجتماع۔ غِفَارَة جمع غَفَائِر: سر پر باندھنے کا رومال یا سر کی چادر۔ مِغْفَر جمع مَغَافِر: خود (helmet)

غفش: الغفش: آنکھ کا کیچڑ۔

غفص: غَافَصَ غِفَاصًا و مُغَافَصَةً هُ: کو اچانک آلینا، کو بے خبری میں جا پکڑنا۔ المُغَافِصة جمع غَوَافِص: بلائے ناگہانی، اچانک آنے والی مصیبت۔

غفق: ۱۔ غَفَقَ ـِ غَفْقًا علیه: پر اچانک آ جانا، حملہ کرنا۔ ـــ هُ بالسوط: کو چابک سے بہت مارنا۔ اِغْتَفَقَ به: کا احاطہ کرنا۔

۲۔ غَفَقَ ـ غَفْقًا الرجُلُ: اچانک واپس آ جانا۔ المَغْفِق: واپسی کی جگہ۔ المُنْغَفَق: واپس ہونے اور مڑنے کی جگہ۔

۳۔ غَفَقَ ـ غَفْقَةً: تھوڑی سی نیند لینا۔ غَفَقَ: اونگھنا۔

۴۔ تَغَفَّقَ الشراب: تمام دن شراب پینا یا گھڑی گھڑی شراب پینا۔

۵۔ الغَفَق: ہلکی بارش

غفل: ۱۔ غَفَلَ ـُ غُفُولًا و غَفْلَةً و غَفَلًا عنه: سے غافل ہونا، کو بھولنا، چھوڑنا۔ غَفَّلَ هُ: کو غافل بنانا یا کہنا۔ غَافَلَ هُ: کی غفلت کے وقت کا انتظار کرنا۔ اَغْفَلَ الشَّیءَ: کو نظر انداز کرنا، چھوڑ دینا۔ ـــ هُ: کو غافل کہنا یا سمجھنا۔ کو اس کے کام کے وقت کا پوچھنا، کی فراغت کا انتظار نہ کرنا۔ تَغَفَّلَ و اِسْتَغْفَلَ هُ: کی غفلت کے وقت کا انتظار کرنا تَغَافَلَ: اپنے آپ کو غافل ظاہر کرنا، غفلت کا بہانہ کرنا۔ ـــ هُ: کی غفلت کے وقت کا انتظار کرنا۔ ـــ عن الامر: کو بھول جانا۔ اِغْتَفَلَ هُ: کو غافل جاننا، کی غفلت کا انتظار کرنا۔ الغُفْل من الرجال جمع اَغْفَال: وہ شخص جس سے نہ کسی بھلائی کی امید ہو نہ اس سے خطرہ کا ڈر ہو۔ الغَفَل (مص): فراخی زندگی، کہا جاتا ہے۔ هو فی غَفَل من عیشه: وہ زندگی کی فراخی میں ہے۔ الغَفْلان: غافل، غفلت ولا پرواہی الغَفْلان: غافل۔ المَغْفَلَة: لب زیریں کے نیچے بال۔ المُغَفَّل (مفع): بے خبر، سادہ لوح

۲۔ غَفَلَ ـُ غُفُولًا و غَفْلَةً و غَفَلًا الشَّیءَ: کو چھپانا۔ غَفَّلَ الشَّیءَ: کو چھپانا۔ اَغْفَلَ الکتاب: تحریر پر نقطے نہ لگانا۔ الغُفْل جمع اَغْفَال: بے علامت، بے حسب آدمی۔ ـــ من الشِّعْر: شعر جس کا قائل معلوم نہ ہو۔ ـ من الارض: غیر آباد زمین ـــ من الکتب: جس کے مصنف کا نام نہ دیا گیا ہو۔ ـ من الشعراء: مجہول شاعر۔ نَعَمٌ اغفالٌ: وہ مویشی جنہیں داغا نہ گیا ہو۔

غَفَلَ ـُ غَفْلَةً و غُفُولًا عن: کو نظر انداز کر دینا، میں غفلت کرنا، سے غفلت کرنا، لاپرواہ ہونا، کی پرواہ نہ کرنا، پر توجہ نہ دینا، کو بھولنا، بھول جانا۔ غَفَّلَ هُ: کو بے پرواہ بنانا، غافل بنانا، لاپرواہ بنانا یا توجہ نہ کرنے والا بنانا۔ غَافَلَ هُ: کی غفلت یا بے پرواہی کو استعمال کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا، کو اچانک جالینا، بے خبری میں جالینا۔ اَغْفَلَ ه: کو نظر انداز کرنا، کی پرواہ نہ کرنا، میں غفلت کرنا، سے غفلت کرنا، لاپرواہ ہونا، پر توجہ نہ کرنا، کو بھولنا یا بھول جانا، کو چھوڑ دینا، کو وضاحت اور تعیین کے بغیر چھوڑ دینا۔ تَغَفَّلَ: بمعنی غَافَلَ۔ تَغَافَلَ: غفلت یا لاپرواہی یا بے خبری ظاہر کرنا یا کا بہانہ کرنا۔ ـ ہ/ ه: کو نظر انداز کرنا، سے غفلت کرنا، کی پرواہ نہ کرنا، کی ہکی کرنا۔ ـ عن: پر کوئی توجہ نہ دینا، میں دلچسپی نہ لینا، کے بارے میں غیر جانبدار ہونا، اِسْتَغْفَلَ بمعنی غافل: نیز اِسْتَغْفَلَ هُ: کو بے وقوف سمجھنا، کو بے وقوف بنانا، غُفْل: لاپرواہ، بے پرواہ، غافل، توجہ نہ کرنے والا، جس پر نشان نہ ہو، غیر معین، غیر واضح، بے نام، گمنام، غیر معروف ـــ من: سے محروم، خالی، غُفْل من التاریخ: بلا تاریخ، جس پر تاریخ نہ دی گئی ہو غُفْل من الامضاء (التوقیع): بغیر دستخط، بلا دستخط شدہ، غیر معروف، گمنام، حدید غُفْل: پگ آئرن، کروڈ آئرن (دیگ کا لوہا، دیگی لوہا، خام یا کچا لوہا) غَفْل: بے پروائی، غفلت، بے توجہی، نادانستگی، بے خبری، غَفْلَة: بے پروائی، غفلت، بے توجہی، نادانستگی، غفلت، بے مرضی، بے اعتنائی، بے وقوفی، حماقت، موت الغَفْلة: اچانک موت علی غفلة اور علی حسن غفلة: اچانک، بے خبری میں غَفْلان: بے پرواہ، غافل، غفلت شعار، سہل انگار، لاپرواہ، توجہ نہ کرنے والا، بے توجہ، اونگھتا ہوا، نیم خوابیدہ، خواب آلود۔ تَغْفِیل: تضحیک، اِغْفَال: غفلت، تغافل، تساہل، بے التفاتی، بے پروائی، نظر اندازی، ہکی، فروگزاشت، تَغَافُل: غفلت، تساہل، غافِل جمع غافِلون و غُفُول و غُفَّل: بے پرواہ، غافل، غفلت شعار، سہل انگار، بے خبر، بے توجہ، مُغَفَّل: کھوڑ، بے حس، سرد مہر، ذہنی طور پر کاہل، غیر جانبدار، نا مخالف، نہ حامی، غیر متوجہ، سادہ لوح، آسانی سے دھوکا کھا جانے والا۔ مُتَغَفِّل: احمق، گدھا، کند ذہن، غبی، کودن، بے وقوف، گاؤدی مُغْفَل: گمنام، غیر معروف، شرکة مُغْفَلَة: جائنٹ سٹاک کارپوریشن Joint stock corporation

غفو: غَفَا ـُ غَفْوًا و غُفُوًّا و غَفِیَ یَغْفَی غَفْیَةً و اَغْفَی: اونگھنا، ہلکی نیند لینا۔ عموماً اَغْفَیْتُ کہا جاتا ہے کبھی غَفَیْتُ بھی کہہ دیتے ہیں الغَفْوَة: غفا سے اسم مرہ ہے، ہلکی نیند اونگھ، جھپکی۔

۲۔ غَفَا ـُ غَفْوًا و غُفُوًّا الشَّیءُ: پانی پر تیرنا۔

غَفْوَة جمع غَفَوَات اور اِغْفَاءَة: نیند، خواب، جھپکی، قیلولہ، ہلکی سی نیند (کرسی وغیرہ پر) مختصری نیند، اونگھ۔

غفی: ۱۔ غَفَی ـ غَفْیًا الطعام: غلہ کو صاف کرنا، اَغْفَی الطعامَ: غلہ کو صاف کرنا۔ الطعامُ: غلہ میں بہت کوڑا کرکٹ ہونا۔ ـ الرجُلُ: آدمی کا کھلیان میں بھوسہ پر سونا۔ اِنْغَفَی الشَّیءُ: ٹوٹ جانا الغَفَی: گیہوں کا چھلکن۔ الغُفَاء: گیہوں میں ملے ہوئے تنکے اور چھوٹے گیہوں، کھجور کے درخت کی گرد و غبار جیسی آفت جو کھجوروں کو پکنے نہیں دیتی۔

۲۔ الغُفَاءَة: آنکھ کی سفیدی۔

الغَفْیَة: بلند ٹیلہ جس پر پانی نہ چڑھ سکے۔

غق: غَقَّ ـِ غَقًّا و غَقِیقًا القِدرُ: ہانڈی کا آواز جوش کھانا۔ ـ الصقرُ: شکرہ کا آواز نکالنا۔ الغَقّ (مص): کوے کی آواز کی نقل، غَقُّ الماء و غَقِیقُه: کھلی جگہ سے تنگ جگہ میں داخل ہوتے ہوئے پانی کی آواز۔ الغَقَّاق: مبالغہ کا صیغہ۔

غل: ۱۔ غَلَّ ـُ غَلًّا فی الشیءِ: کو کسی چیز میں داخل کرنا۔ ـ المفازةَ: ریگستان میں داخل ہونا۔ الشَّیءَ: چیز چرا کر اپنے سامان میں رکھ لینا۔ الماءُ بین الاشجار: پانی کا درختوں کے درمیان بہنا۔ ـــ الغِلَالَة: شلوکہ پہننا۔ ـــ هُ: کو ہتھکڑی یا طوق ڈالنا۔ ـــ غُلُولًا فی الشیءِ: میں داخل ہونا۔ ـ فی البلاد: ملک میں گھستے ہوئے دور تک جانا۔ غَلَّلَ الغِلَالَة: شلوکہ پہننا۔ ـ هُ: کو ہتھکڑی یا طوق ڈالنا۔ اَغَلَّ الجازرُ فی الجلد: قصاب کا کھال کھینچتے وقت کچھ گوشت اور چربی کو کھال میں لگا چھوڑنا۔ تَغَلَّلَ فی الشیءِ: میں داخل ہونا۔ ـ بالغالیة: خوشبو لگانا۔ اِنْغَلَّ فی الشیءِ: میں داخل ہونا۔ اِغْتَلَّ الثوبَ: کپڑے کا اور کپڑوں کے نیچے پہننا۔ ـــ بالغالیة: خوشبو لگانا۔ الغُلّ جمع اغلال و غُلُول: ہتھکڑی، طوق، کہا جاتا ہے۔ هذا غُلٌّ فی عنقك: یہ تمہاری گردن میں طوق ہے، جو گردن میں پڑا رہیگا اور تمہارے عذاب کا باعث بنا رہے گا۔ الغَلَل جمع اَغْلال: درختوں کے درمیان بہنے والا پانی۔ کھال کھینچتے وقت اس پر چھوڑا ہوا گوشت، چھلنی۔

الغُلَّة جمع غُلَل: کپڑوں کے نیچے پہننے کا کپڑا، وہ چیز جس میں کوئی چھپ جائے۔ کوزے کے سر پر باندھنے کا کپڑا۔ الغِلالة جمع غَلائِل: شلوکہ جو کپڑوں یا زرہ کے نیچے پہنتے ہیں۔ زرہ کے دو حلقوں کو جوڑنے والی میخ۔ الغالِية: مشک اور عنبر سے بنی ہوئی خوشبو۔ الغَلِيلة: غلائل کا واحد۔ زرہ یا زرہ کے نیچے پہننے کا کپڑا۔

۲۔ غَلَّ ـُ غُلولاً: خیانت کرنا۔ غَلَّ بصرُهُ: نگاہ کا بھٹک جانا۔ ـــ ـِ غِلًّا و غَلِيلاً صدرُهُ: سینہ کا کینہ سے پُر ہونا۔

اَغَلَّ الخطيبُ: خطیب کا اپنے کلام میں حق بجانب نہ ہونا، حق تک نہ پہنچنا۔ ـ الرجُل: خیانت کرنا۔ ـ ہٗ: کو خیانت کی طرف منسوب کرنا۔ الغِلّ: کینہ، کھوٹ۔ الغَلِيل: کینہ۔

۳۔ غُلَّ غَلًّا و غُلَّةً: کو سخت پیاس لگنا، سخت پیاسا ہونا، صفت۔ غَلِيل و مَغْلُول و مُغْتَلّ۔ الغَلّ جمع اغلال و غُلُول: پیاس۔ الغُلَّة جمع غُلَل: سخت پیاس۔ الغُلَل: پیاس۔ الغَلِيل: سخت پیاسا، سخت پیاس۔ محبت یا غم کی گرمی۔ الغَلِيلة: غلیل کا مونث۔ المُغْتَلّ: پیاسا کہا جاتا ہے۔ انا مُغْتَلٌّ اليه: میں اس کا مشتاق ہوں۔

۴۔ اَغَلَّت الارضُ: زمین کا غلہ پیدا کرنا، غلہ والی ہونا۔ ـــ على عياله: بال بچوں کے لئے غلہ لانا۔ اِغْتَلَّ الضيعةَ: جائیداد کا غلہ لینا۔ اِسْتَغَلَّ الارضَ: زمین کا غلہ لینا۔ ـــ عَبْدَهُ: غلام کو غلہ لانے پر مجبور کرنا۔ الغَلَّة جمع غَلّات و غِلال: گھر کے کرایہ کی آمدنی یا زمین کا ماحصل۔ المِغْلال: بہت غلہ والا۔ المُغَلّات و المُسْتَغَلّات: زمین کا نفع کرایہ کی شکل میں یا غلہ کی صورت میں۔

۵۔ اَغَلَّ البصرَ: تیز نظر کرنا۔

۶۔ غَلْغَلَ غَلْغَلَةً و تغلغل: چلنے میں جلدی کرنا۔ في الشيئ: میں تھکن اور سختی سے داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ غَلْغَلَ اليه رسالةً: اس نے اسے ایک خط بھیجا، جو ایک شہر سے دوسرے شہر تک لیجایا جاتا ہے۔ الغُلْغُل جمع غلاغل: درخت کی گہری جڑ۔ رِسالة مُغَلْغَلَة: ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچایا ہوا خط۔

○ غَلَّ ـُ غَلًّا ھ في: کوئی چیز۔ میں، کے درمیان ڈالنا، داخل کرنا، رکھنا، لگانا۔ ھ: میں داخل ہونا۔ ـ ہٗ: کو ہتھکڑی یا طوق ڈالنا، کو ہتھکڑی لگانا، کو بیڑیاں ڈالنا۔ ـــ: (زمین کا) فصل پیدا کرنا، فصل یا پیداوار دینا۔ غَلَّ يده الى عنقه: کنجوس ہونا، کچھ نہ دینا، کچھ نہ خرچ کرنا۔ غَلَّ ـِ غَلًّا: (سینہ کا) کینہ یا نفرت سے بھرا ہونا۔ غُلَّ غَلًّا و غُلَّةً: سخت پیاسا ہونا۔ غَلَّلَ ہٗ: کو طوق یا ہتھکڑی ڈالنا۔ کو ہتھکڑی لگانا۔ اَغَلَّ: (زمین کا) فصل پیدا کرنا۔ فصل یا پیداوار دینا۔ ـ ھ على: کی بات مان لینا، (کی خواہش) کے آگے جھک جانا۔ تَغَلَّلَ في: میں داخل ہونا۔ انغَلَّ بمعنی تَغَلَّلَ۔ اِسْتَغَلَّ ھ: کو جمع کرنا، پانا، حاصل کرنا، جیتنا، (فصل) کاٹنا، پر نفع کمانا، کی آمدنی وصول کرنا، کو استعمال کرنا، پر روپیہ لگا کر نفع حاصل کرنا، کو اچھے نفع میں تبدیل کرنا، ـــ ھ/ہٗ: سے نفع کمانا، سے فائدہ اٹھانا ـــ ھ: سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کا فائدہ اٹھانا، کی لوٹ کھسوٹ کرنا، کا ناجائز فائدہ اٹھانا، کا استحصال کرنا۔ غِلّ: کینہ، نفرت، بغض، فساد، بدباطنی۔ غُلّ: سخت پیاس جمع اغلال: لوہے کا طوق، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، زنجیریں، پابندیاں، بندشیں، روک، آڑ، بند، مزاحمت، رکاوٹ۔ غُلَّة: سخت پیاس۔ غَلَّة جمع غَلّات و غِلال: پیداوار، زرعی پیداوار، فصل، مالیہ، غلہ، اناج، دانہ، پھل۔ غِلالة جمع غلائل: بے آستین (کی) قبا، شلوکہ۔ غلالة النوم: رخت شب، خانگی لبادہ۔ غليل: سخت پیاس سے نڈھال، انتقام کی پیاس، کینہ سے نڈھال، بدنیتی، سرگرم خواہش، جمع غلائل: سخت پیاسا، پیاس۔ استغلال: استعمال استفادہ، (کان وغیرہ کی) ترقی، ناجائز انتفاع، مطلبی، استعمال، استفادہ، (مزدوروں وغیرہ کا) خون چوسنا، عرق نکالنا، ناجائز یا غلط استعمال، ناجائز انتفاع، استحصال۔ استغلالی: استحصالی۔ مَغْلُول: بیڑیوں میں جکڑا ہوا، ہتھکڑی لگا ہوا، پیاس سے نڈھال، سخت پیاسا۔ مَغْلُول اليد: ست، کاہل، بے حرکت، بے عمل۔ مُغِلّ: پیداواری، پھل دار، بار آور، زرخیز (زمین، مٹی)۔ مُسْتَغِلّ: استحصال کرنے والا، استعمال کرنے والا، نفع پانے والا، فائدہ اٹھانے والا، جاگیردار۔ مُسْتَغَلّ: فصل آور، آمدنی بخش، نفع بخش، پیداوار، زرعی پیداوار، نفع۔

غلب: ۱۔ غَلَبَ ـِ غَلْبًا و غَلَبًا و غَلَبَةً و مَغْلَبًا و مَغْلَبَةً و غُلُبّى و غِلِبّى و غُلُبَّةً و غلابيةً و اغْتَلَبَ الرجُلَ و غَلَبَ عليه: پر غالب آنا، کہا جاتا ہے، غَلَبَ عليه الكرمُ یعنی سخاوت اس کی سب سے بڑی عادت بن گئی، گویا اس کی یہ حالت ہوگئی کہ وہ سوائے فیاض ہونے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ غُلِبَ على الشيئ: کا سے غلبہ کے ذریعہ لیا جانا۔ غَلَّبَ ہٗ عليه: کو پر غالب کرنا۔ غالَبَ غِلابًا و مُغالَبَةً ہٗ: ایک دوسرے پر غلبہ کی کوشش کرنا۔ تَغَلَّبَ على البلد: (ملک یا شہر) پر بزور قابو پانا، قابض ہونا۔ تغالبوا على البلد: پر قابض ہونے کے لئے ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ اِسْتَغْلَبَ عليه الضحكُ: پر ہنسی کا غالب آنا۔ الغالِب جمع غالِبُون و غَلَبَة (فا): کہا جاتا ہے۔ هذا ما يحدث غالبًا و في الغالب یہ تو اکثر ہوتا رہتا ہے۔ الغَلّاب جمع غَلّابُون: بہت غلبہ پانے والا۔ الاَغْلَب: اسم تفضیل۔ على الاَغْلَبِ و في الاَغْلَبِ: یعنی اکثر و بیشتر۔ الغُلُبَّة (مص) من الرجال: بہت جلد غالب آنے والا۔ المُغَلَّب (مفع): بار بار مغلوب جسکیا ہوا۔ المَغْلَبَة (مص): غلبہ۔ غلبہ کی جگہ۔

۲۔ غَلِبَ ـَ غَلَبًا: موٹی گردن والا ہونا۔ صفت اَغْلَب م غَلْباء جمع غُلْب۔ الغَلْباء: اَغْلَب کا مونث: بڑا اونچا ٹیلہ۔

۳۔ اِغْلَوْلَبَ العشبُ: گھاس کا گھنا ہونا۔ ـــ القومُ: لوگوں کا بہت ہونا۔

الغَلْباء: گھنے درختوں کا باغیچہ۔ بڑا قبیلہ۔

○ غَلَبَ ـِ غَلْبًا و غَلَبَةً ہٗ/ ھ يا على: کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، فتح کرنا، پر غالب آنا، کو نیچا دکھانا، کو شکست دینا، فتح کرنا، پر غالب آنا، کو نیچا دکھانا، کو مارنا پیٹنا، کا بہتر حصہ پانا، پر فاتح ہونا، پہ برتری حاصل کرنا، پر فوقیت حاصل کرنا ـــ ھ / على: کا ماہر بن جانا، پر غلبہ پانا، قابو پانا، کو زیر کرنا، کو قابو میں لانا، پر قبضہ کرنا، کو زبردستی لے لینا، کو گرفت میں لینا ـــ ہٗ/ على: کو زیر کرنا، کو قابو میں لانا، پر قابو پانا کو گھیرے میں لینا، کو کچل ڈالنا ـــ ہٗ على: سے کوئی چیز چھین لینا، کو جھٹکا دیکر اس سے کچھ چھین لینا۔ سے کوئی چیز لوٹ لینا ـــ على: میں عام ہونا، میں کا رواج ہونا، سے بڑا یا زیادہ یا زیادہ اہم، یا زیادہ با اثر ہونا۔ غُلِبَ: اغلب ہونا غالبًا ہونے والا ہونا۔ غَلَبَ على الظن: اغلب ہونا۔ تَغْلِبُ عليه الصحةُ او الجدَّةُ: ٹھیک، تقریباً صحیح یا نیا ہونا۔ تَغْلِبُ عليه الكآبة: وہ اکثر اوقات افسردہ، پژمردہ یا بجھا بجھا سا رہتا ہے۔ اس میں حزن و ملال عام ہے۔ يغلبُ عليه الكرم: اس کی نمایاں خوبی اس کی فیاضی ہے۔ غَلَّبَ ہٗ على: کو پر فوقیت دلانا، بالا دست بنانا، کو پر فتح یاب کرنا۔ ھ على: کو کے اوپر یا سامنے رکھنا۔ غالَبَ ہٗ: کو شکست دینے کی کوشش کرنا ـــ ھ/ہٗ: سے لڑنا، لڑائی کرنا، سے لڑنا، بھڑنا، کا مقابلہ کرنا، کے ساتھ جدوجہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، سے کشتی کرنا۔ المصاعب: مشکلات کے ساتھ لڑنا ـ ہٗ: پر غالب آنا (جیسے نیند)۔ تغلب على: پر فتح پانا، پر پورا غلبہ، میں پوری مہارت یا میں

كمال حاصل كرنا۔ پر غالب آنا، قابو پانا، كا ماہر ہونا، سے سبقت لینا، کو کرلینا، (مزاحمت) کو ختم کر دینا، سے زیادہ اہم ہونا۔ تغَلَّبَ علیه النعاسُ اونگھ نے اس پر غلبہ پالیا۔ تـغـالـب ایک دوسرے کے ساتھ کشتی لڑنا، جدوجہد کرنا۔ غَلْب: فتح، فتح کرنا، شکست دینا، غالب آنا۔ غَلَبة: فتح بے کار گفتگو، بک بک، بچوں کی سی باتیں، غَلَباوِی بکواسی، باتونی، بھڑ بھڑیا، فصیح، غَلّاب: فاتح، فتح مند، کامیاب، بامراد۔ اَغْلَب: بڑا حصہ، اکثریت (کا) بیشتر۔ فی الأغلب: زیادہ تر، بیشتر، اکثر حالتوں میں، عموماً، عام طور پر، بالعموم۔ فی الأغلب و الأعَمّ: زیادہ تر، بیشتر، اکثر، حالات میں، عموماً، عام طور پر، بالعموم۔ فی اغلب الظن: غالبًا، اغلبًا: غالب امکان ہے کہ اَغْلَبَ اَمرِه و اَغْلَبَ الامر: بیشتر حالات میں، اکثر و بیشتر۔ اغلبًا، اَغْلَبیة: اکثریت، زیادہ حصہ۔ اغلبیة خاصة: مشروطا اکثریت اغلبیة مُطلقة: مطلق اکثریت، غیر مشروطا اکثریت غِـلاب: لڑائی، جنگ، جدوجہد، جھگڑا، فساد، مقابلہ، مبارزت۔ مُـغـالبة: بمعنی غِلاب۔ غالب: اہم، نمایاں، با اثر، (کا) بیشتر، (کا) بڑا حصہ، (کی) اکثریت جمع غَلَبَة فاتح۔ غالباً و فی الغالب: عموماً عام طور پر، بالعموم، زیادہ تر، بیشتر، اکثر حالتوں میں، اغلباً۔ والغالبُ انّ اور قاعدہ یہ ہے کہ، قاعدہ کے طور پر۔ مُغَلَّب: شکست خوردہ مغلوب: قابو یافتہ۔ مغلوب علی امره: بے بس۔

غلت: غَلِتَ ـَ غَلَتًا البیعَ او الشراء: خرید و فروخت کو منسوخ کرنا۔ غَـلِـتَ ـَ غَلَتًا: غلطی کرنا، خصوصاً حساب میں۔ تغَلَّتَ و اغْتَلَتَ هُ: کو بے خبری میں جالینا۔ الغَلْتة: رات کا پہلا پہر۔

غلث: ا۔ غَـلَـثَ ـِ غَلْثًا الشیَ بالشیَ: کو میں ملانا۔ الغَلَث: غلہ میں ملا ہوا کوڑا کرکٹ۔ الغَلِث: مجنون۔ والغَلیث و المغلوثُ من البُرّ: کوڑا کرکٹ ملا ہوا گیہوں۔

۲۔ غَلِثَ ـَ غَلَثًا القومُ: سختی سے لڑنا، قتال کرنا۔ الغَلِث والمُغالِث: سخت جنگجو۔

۳۔ غَـلِـثَ ـَ غَلَثًا و اغتلَثَ الزندُ: چقماق کا آگ نہ دینا۔

غـلـج: غَـلَـجَ ـِ غَلْجا و غَلَجانًا الفرسُ: گھوڑے کا برابر رفتار پر چلنا۔ تـغَـلَّجَ علیه: پر ظلم کرنا۔ الغُلُج: جوانی کا عمدہ حصہ، جوانی کا جوبن۔ الأغلوج جمع اَغالیج: نرم و نازک ٹہنی۔

غـلـد: الـغـلادیشـیا (ن): خاردار درخت کی ایک قسم جو سجاوٹ کے کام آتا ہے۔

غـلـس: غَلَّسَ: آخر شب کی تاریکی میں چلنا۔ ــــ فی العمل: آخر شب کی تاریکی میں کام کرنا۔ ــــ الماءَ: آخر شب کی تاریکی میں پانی پر پہنچنا۔ أغْـلَـسَ: آخر شب کی تاریکی میں چلنا۔ الـغـلـس جمع اَغْلاس: آخر شب کی تاریکی۔

غـلـص: غَـلَـصَ ـُ غَلْصًا و غَلْصَمَ غَلْصَمَةً هُ: کا حلق کاٹنا، حلق پکڑنا۔ الغَلْصَمَة (مص) جمع غَلاصِم: سر اور گردن کے درمیان کا گوشت۔ گروہ، سرداران قوم کہا جاتا ہے۔ هو فی غَلْصَمَةِ من قومه: وہ اپنی قوم میں معزز شخص ہے۔

غـلـط: غَلِطَ ـَ غَلَطاً فی الأمر: میں غلطی کرنا صفت غالِط اور صفت مفعولی: مَغْلُوطٌ فیه یعنی غلطی کرنے والا اور جس میں غلطی کی گئی۔ غَـلَّـطَـهُ: کو غلطی کی طرف منسوب کرنا۔ غـالَطَ غِلاطًا و مُغالطةً و أغْلَطَ هُ: کو غلطی میں ڈالنا۔ تـغَـالَـطَ القومُ: ایک دوسرے کو غلطی میں ڈالنا۔ الـغَـلَـط (مص): غلطی۔ خطا، اس کی جمع اغلاط درست نہیں۔ الـمَـغْـلَـطَة جمع مَـغـالِـط والأُغلوطَة جمع أُغلوطات و أَغالیط و الغَلُوطه: غیر واضح مسئلہ جس سے کسی کو غلطی میں ڈالا جائے۔ وہ بات جس میں غلطی کی جائے یا جس میں کثرت سے غلطی واقع ہو۔ کہا جاتا ہے۔ هـذه مسألةٌ غَلُوطَة: اس مسئلہ میں بہت غلطی کی جاتی ہے۔ الـمِـغْـلاط: بہت غلطیاں کرنے والا۔

○ غَـلِـطَ ـَ غَلَطًا: غلطی کرنا، غلطی کا ارتکاب کرنا، خطا کرنا، غلطی پر ہونا۔ غـلَّـطَ ه: کو قصوروار قرار دینا، کو ضلالت و گمراہی کا الزام دینا، کو یہ خیال دلانا کہ خطا اس کی ہے، سے غلطی کرانا۔ غالَطَ ه: کو غلطیوں میں ملوث کرنا، کو دھوکا دینا، فریب دینا سے دغابازی کرنا، بے ایمانی کرنا، کو ٹھگ لینا۔ أغْـلَـطَ هُ: سے غلطی کرانا۔ تـغـالَـطَ: ایک دوسرے کو گمراہ کرنا، فریب دینا، ایک دوسرے سے دغابازی کرنا، بے ایمانی کرنا۔ غَلَط جمع اَغْـلاط: غلطی، خطا، فروگذاشت بھول، چوک، سہو۔ سخت فاش غلطی، حماقت، غلط، نادرست۔ غَلَطُ الحِسّ: فریب نظر، وہم، موہوم پیکر، ہوش کی فریب خوردگی۔ فی الامر غَلَط: کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے۔ غَلْطَة جمع غَـلَـطات و اَغلاط: خطا، غلطی، بھول، چوک، سہو، فروگذاشت، فاش غلطی غَـلْـطَـةٌ مَـطْـبَـعِـیَّـةٌ: طباعت کی غلطی، سہو کتابت۔ غَـلْـطَـان: غلطی کرنے والا، غلطی پر، خطا کرنے والا۔ اُغْلُوطة جمع اُغلوطات و اَغالیط: حرف گیر سوال، نکتہ چین سوال مَغْلَطة جمع مَغالِط: حرف گیر سوال، نکتہ چین سوال مُغالَطة جمع مُغالَطات: فریب دہی، دغابازی، دھوکا، ٹھگی، دغا، فراڈ، جعلسازی، توڑ مروڑ کر بیان کرنا مغالطة: غلط دلیل، باطل استدلال۔

غلظ: ا۔ غَـلَـظَ ـُ غِلَظًا و غَلْظَةً و غِلْظَةً و غُلْظَةً و غِلاظَةً: موٹا ہونا، گاڑھا ہونا، سخت ہونا، صفت غلیظ جمع غِلاظ و غالِظ جمع غـلـظة۔ غَلُظَ ـُ غِلَظًا و غَـلْـظَةً و غِـلْـظَةً و غُـلْـظَةً و غلاظةً: موٹا ہونا، گاڑھا ہونا، سخت ہونا، صفت غَـلِـیـظ جمع غِـلاظ و غالِظ جمع غَلَظة۔ ـ الرجُلُ: سخت و تندخو ہونا۔ ــ ن السنبلة: بالی میں دانہ پڑنا۔ غَـلَّـظَ هُ: کو موٹا، گاڑھا یا سخت، یا کھردرا یا مشکل بنانا۔ غالَظَ مُغالَظةً هُ: سے دشمنی کرنا، کی مخالفت کرنا۔ اَغْلَظَ الشیَ: کو موٹا، گاڑھا یا سخت پانا۔ ـ المُسافِر: مسافر کا سخت زمین پر اترنا۔ ــ لَهُ فی القول: سے سخت کلامی کرنا۔ اِستَغْلَظَ: موٹا، گاڑھا یا سخت ہونا یا ہوجانا ــــ الشیَ: کو موٹا، گاڑھا یا سخت پانا۔ الـغَـلْـظ: ناہموار سخت زمین۔ الغِلْظَة (مص): شدت، کھردراپن، بدتمیزی، گستاخی، سختی، بدتہذیبی کہا جاتا ہے۔ بینهم غِلْظَة: ان کے درمیان دشمنی ہے۔ الغُلاظ: موٹا، گاڑھا، سخت۔

۲۔ غَلَّظَ الیمینَ: قسم کو پختہ کرنا۔ ــ علیه فی الیمین: پر قسم میں سختی کرنا، کہا جاتا ہے اخذ منه میثاقًا غلیظا: اس نے اس سے پختہ عہد لیا۔

○ غَـلُـظَ علی: سے سختی سے پیش آنا، سے سنگدلانہ برتاؤ کرنا۔ غَـلَّـظَ الـیمین: پکی قسم کھانا۔ اَغْلَظَ له الـقـول یا فی القول: پر گستاخی سے چیخنا، سے بدتمیزی سے بات کرنا۔ غَلیظُ الرقَبة: سخت گردن والا، ضدی، ہٹ دھرم، ہٹیلا، ہٹ کا پکا، منہ زور سرکش۔ یمینٌ مُغَلَّظة: پکا حلف حلف لازم، اَغْلَظ: زیادہ موٹا، زیادہ موٹا جھوٹا، زیادہ کھردرا، زیادہ سخت، زیادہ بدتمیز، زیادہ غیر مہذب۔

غلف: ا۔ غَـلَـفَ ـُ غَلْفًا الشیَ: کو ڈھانکنا، غلاف میں ڈالنا۔ غَـلَّـف الشیَ: کو غلاف میں ڈالنا، کو ڈھانکنا، ڈھانپنا۔ اَغْـلَـفَ الشیَ: کے لئے غلاف بنانا، کو غلاف میں ڈالنا۔ تَـغَـلَّـفَ: غلاف میں ہونا ــــ الرجُلُ: داڑھی میں غالیہ خوشبو لگانا۔ اِغتَلَفَ: غلاف میں ہوجانا۔ ــــ بـالـغالیة: غالیہ خوشبو سے ملی ہوئی ہونا۔ الـغَـلْـفُ (مص): ایک درخت جس سے چمڑا رنگتے ہیں۔ الغِلاف جمع غُلُف و غُلُف و غُلَّف: غلاف، نیام، لفافہ، کیس، غلاف خط مُتحرك (ف): خط ثابت۔ الأغلَف جمع غُلْف: جو کچھ یادنہ

رکھے۔ کہا جاتا ہے قَلْبٌ اَغْلَفُ نہ سمجھنے اور نہ یاد رکھنے والا دل۔ المُغَلَّف (مفع) بعض ادباء اسے کتاب کے غلاف کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ کِتابٌ مُغَلَّف سادہ کور والی کتاب۔ غیر مجلد کتاب۔

۲۔ غَلِفَ ـَ غَلَفًا ختنہ شدہ نہ ہونا۔ الغُلفَة جمع غُلَف وہ کھال جس کو ختنہ کرنے والا کاٹتا ہے۔ الغُلفَتان مونچھوں کے دونوں طرف۔ الأَغلَف غیر مختون جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو۔ الغلفاء جمع غُلف۔ الاغلف کا مونث۔ ارضٌ غلفاء نہ چری ہوئی زمین۔

۳۔ الـغَـلَف وسیع زرخیزی۔ عـامٌ اَغْـلَفُ زرخیزی کا سال۔ سنة غلفاء زرخیزی کا سال۔

○ غـلَّف ہ کو کور یا چادر، لفافہ یا کیس میں رکھنا کو لپیٹنا، لفافے میں ڈالنا۔ ـــ ہ ب کو سے ڈھانپنا، ڈھکنا، چھپانا۔ غِلاف جمع غُلُف کور (cover)، ڈھکنا، پوش، پوشش، چادر، شال، کیس وغیرہ، ریپر Wrapper ریپنگ (Wrapping)، جزدان، کیس، صندوق، لفافہ۔ مُغَلَّفات کور، کورنگ، ریپ، ریپر، ریپنگ، لفافہ۔ (اور مُغَلَّف: غیر مختون۔)

غلق: غَلِقَ ـَ غَلَقًا تنگ دل ہونا۔ غَـلَـقَ ـِ غَلْقًا الباب دروازہ بند کرنا۔ (یہ خراب زبان ہے) غَـلَّقَ الـبابَ: دروازہ بند کرنا۔ اَغْـلَقَ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ ـــ هُ علی کذا: کو پر مجبور کرنا۔ اُغْـلِقَ علیه الامرُ: پر معاملہ مبہم غیر واضح ہونا۔ ـــ القاتلُ فی ید الـولـیّ قاتل کا حاکم کے حوالے کیا جانا کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ کہا جاتا ہے۔ اُغْـلِـقَ فـلانٌ بـجـریرتـه: فلاں کو اس کے جرم سمیت اس کے بارے میں فیصلہ کے لئے پیش کیا گیا۔ اسم الغلاق۔ اِنْـغَـلَـقَ الـبـابُ دروازہ بند ہونا، دروازہ کا کھلنا مشکل ہونا۔ اِسْتَغْلَقَ البابُ: دروازہ کا کھلنا مشکل ہونا۔ ـــ الکلامُ علی فلان: پر گفتگو کا بند ہو جانا ساکت رہنا۔ الغَلَق جمع اَغْلاق و جـج اَغَـالِـيق: قفل، تالا بڑا دروازہ (ب) معماروں کی اصطلاح میں وہ پتھر جو محراب یا قبہ کے بیچ میں لگایا جاتا ہے۔ بـابٌ غُـلُق: بند دروازہ۔ کـلامٌ غَـلِـقٌ و مُـغْـلَـق: مشکل اور دشوار فہم کلام۔ المِغْلاق جمع مَغَالِيق: جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ (یعنی قفل، تالا) ـــ من الاسلحة النارية الـحـدیثة: (بندوق وغیرہ کی) نالی کا گولی والا حصہ (breech of a fire arm) الـمِـغْـلَـق و المُغْلُوق جمع مَغَالیق: جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ تالا، قفل وغیرہ۔

۲۔ غَلِقَ ـَ غَلَقًا: غضبناک ہونا، بد خلق ہونا صفت غَلِق

۳۔ غَلِقَ ـَ غَلَقًا الرهنُ فی ید المرتهن: رہن کا مرتہن کی ملکیت ہو جانا (ایسا اس وقت ہوتا ہے جب رہن وقت مقررہ پر نہ چھڑایا جائے) غَالَقَ مُغَالَقَةً هُ: سے شرط لگانا۔ تَغَالَقَ القومُ: باہم شرط لگانا المِغْلَق جمع مَغَالِق: جوئے کے تیروں میں سے ایک جیتنے والا تیر۔

○ غَلَقَ ـِ غَلْقًا ہ: (دروازہ وغیرہ) کو بند کرنا، قفل لگانا، چٹخنی لگانا۔ غَـلِـقَ ـَ غَلَقًا الرهنُ: رہن کا ضبط ہو جانا۔ غَـلَّـقَ ہ: (دروازہ وغیرہ) کو بند کرنا قفل لگانا، چٹخنی لگانا۔ اَغْلَقَ بمعنی غَلَقَ نیز اَغْـلَقَ رهنًا: گرو رکھی ہوئی چیز کے ضبط ہونے کا اعلان کرنا، رہن (نامہ) کو پہلے ہی بند کر دینا۔ اُغْلِقَ علی کے لئے مبہم ہونا، غیر واضح ہونا، تاریک ہونا، مشکوک ہونا، مشتبہ ہونا، ناقابل فہم ہونا، اِنْغَلَقَ بند ہونا، مقفل ہونا چٹخنی لگا ہونا، ناقابل فہم ہونا۔ اِسْـتَـغْـلَقَ دھندلا ہونا، تاریک ہونا، مبہم ہونا ناقابل فہم ہونا، مشکل ہونا، پیچیدہ ہونا الجھا ہوا ہونا۔ اِسْتَغْلَقَ علیه الکلامُ: وہ بولنے کے قابل نہ رہا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، وہ ساکت ہو گیا، غَلَق جمع اَغْلاق: قفل، تالا، غَلِق: دھندلا سا، تاریک، مبہم، غیر واضح، مشکوک، مشتبہ، مشکل، عسیر الفهم: پیچیدہ، غامض، دقیق، مُـغْـلَـق غِلاقَة: بقیہ رقم جس کی ادائیگی نہ ہوئی ہو مِغْلاق جمع مَغَالیق قفل، تالا، (بندوق وغیرہ کی) نالی کا گولی والا حصہ (Breech of fire arm) کھٹکے کا قفل، تالے وغیرہ کی روک، بلی، اڑانی، بکسوا، کور، ڈھکنا (Lid) وغیرہ جس سے بند کیا جائے یا باندھا، جوڑا یا لگایا جائے۔ مُغْلَق بند بند کیا ہوا، مقفل، چٹخنی چڑھایا ہوا، دھندلا سا، تاریک، مبہم، مشتبہ، مشکوک، عسیر الفهم، مشکل، مُسْتَغْلَق: دھندلا سا، تاریک خفیہ، پیچیدہ، غامض ذو معنی۔

غلم: ۱۔ غَلِمَ ـَ غَلَمًا و غُلْمَةً: شہوت پرست ہونا۔ صفت۔ غَـلِـمٌ و غِـلِّـيـمٌ مونث غَـلِـمَـةٌ و غِـلِّـيـمٌ و غِـلِّـيـمَة۔ اِغْتَـلَـمَ: شہوت پرست ہونا صفت مُغْتَلِمٌ و مُغْتَلِمَة۔ ـ الشرابُ: شراب کا جوش مارنا۔ ـــ ت الامواجُ: موجوں کا زور سے اٹھنا

۲۔ الغُلام ج غِلْـمـان و غِلْمَة و اَغْلِمَة: نوجوان، غلام، مزدور الـغُلامَة: غلام کی مونث۔ باندی، لونڈی۔ الغُلُومَة و الغُلامِيَّة و الغُلُومِيَّة: نوجوانی کی حالت جوانی۔ الغَيْلَم: بہت بالوں والا نوجوان (ح) کچھوا (ح) مینڈک، کنویں میں پانی کا سوتہ، کہا جاتا ہے۔ مافی الدار غَيْلَمٌ گھر میں کوئی نہیں۔

○ غَـلِـمَ ـَ غَلَمًا و غُلْمَةً و اِغْتَلَم: شہوت سے بر انگیختہ ہونا، حسی خواہش کے قبضہ میں آ جانا۔ غـلِـم: شہوت سے برانگیختہ ہونے والا، حسی خواہش میں گرفتار، آوارہ، اوباش، نفس پرست، شہوت پرست، بندہ نفس، غُلْمَة: شہوت، نفسانی خواہش، گرمی، ہیجان، روش، غُلام جمع غِـلْـمـان و غِلْمَة: لڑکا، نوجوان، غلام، نوکر، ویٹر، کھانا لانے والا۔ غُـلامِيَّة: نوجوانی، جوانی، شباب غَـيْـلَـم: کچھوا۔ غُـلُـومة: نوجوانی، جوانی، شباب۔

غلن: غَـلَـنَ ـِ غَلْنًا الشبابُ: جوانی کا پر جوش ہونا۔ غُلُوان الشباب او الامر: شباب کا آغاز اور جوش۔ معاملہ کا اول اور سرگرمی الـغَـلِـيـنـه (فی اصطلاح الملاحین): سمندر کا بے لطف سکون، اس سے ملاحوں نے فعل بنالیا ہے۔ وہ کہتے ہیں غَلَّنَ البحرُ: سمندر پر سکون ہو گیا۔

غلو: ۱۔ غَلا ـُ غُلُوًّا: زیادہ ہونا، بلند ہونا۔ ـــ النبتُ: پودے کا گنجان اور بڑا ہو جانا۔ ـ السهمُ: تیر کا جاتے ہوئے اونچا ہونا اور نشانہ سے آگے نکل جانا۔ ـ بالدین: دین میں جوشیلا اور بہت سخت اور بے لوچ ہونا۔ ـ غَلاءً السعرُ: نرخ یا بھاؤ کا مہنگا یا سستا ہونا صفت غالٍ و غَلِيّ۔ غَلْوًا و غُلُوًّا السهمَ و بالسهم: تیر کو انتہائی دور تک پھینکنا۔ غَالَی غِلاءً و مُغالاةً فی الامر بات میں مبالغہ کرنا۔ ـ بالشیء: کو مہنگے داموں خریدنا۔ کی قیمت بڑھانا۔ ـ الرجُلَ: خوبی میں کسی آدمی کا مقابلہ کرنا۔ ـ السهمَ و بالسهم: تیر کو انتہائی دور تک پھینکنا۔ اَغْلَی الشیءَ: کو مہنگا پانا، کو مہنگے داموں خریدنا۔ ـ السعرَ: بھاؤ کو گراں کرنا۔ ـ الکرمُ: انگور کی بیل کے پتے اتارنا۔ ـ و تـغالَی و اغْلَوْلَی الشجرُ: درخت کا گنجان اور بڑا ہونا۔ اِغْتَلَی البعیرُ: اونٹ کا جلدی چلنا۔ اِسْتَغْلَی الشیءَ: کو مہنگا پانا۔ الغَالِی جمع غُلاة م غالِية جمع غَاليات و غَوالٍ فا: کہا جاتا ہے۔ بعتُه بالغالی و بالغَلِيّ: میں نے اس کو مہنگا فروخت کیا۔ الغلاء: مہنگائی۔ الغَلْوَة جمع غَلَوات و غِلاء: غلا کا اسم مرۃ۔ تیر مارنے کا انتہائی فاصلہ الغُلَواء و الغُلَواء: حد سے تجاوز۔ ـــ و الـغُـلْـوان: شباب کا آغاز اور سرگرمی و جوش کہا جاتا ہے۔ خفِّض من غُلَوائك: اپنی سرگرمی کچھ کم کرو۔ فعلهُ فی غُلَواء شبابه: اس نے یہ کام اپنی جوانی کے آغاز میں کیا یا جوانی کی سرگرمی میں کیا۔ الـمِغْلَی و الـمِغْلاة جمع مَغالٍ: تیر جو بہت دور فاصلے پر مارا جائے۔

۲۔ الغالی چربی دار گوشت۔ الغلاۃ جمع أغلِیَۃ (ح): چھوٹے جسم کی ایک مچھلی۔

○ غلا ۔ غُلُوًّا فی: میں مناسب حدود سے تجاوز کرنا، میں بہت دور تک جانا، کو بڑھا چڑھا کر بیان، میں مبالغہ کرنا۔ غَلاءُ ۔ غَلاءً (قیمت، نرخ بھاؤ کا چڑھنا، سخت ہونا، مہنگا ہو جانا، مہنگا ہونا، قیمتی ہونا۔ غلّٰی ہ: کی قیمت بڑھانا غالٰی فی: میں حد سے تجاوز کرنا، حد سے زیادہ ہونا، بہت دور تک جانا، مبالغہ کرنا، کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ ۔ ب کی بہت زیادہ قیمت طلب کرنا، کو مہنگے داموں فروخت کرنا کا بہت ذخیرہ کرنا، کو بہت قیمت سے منسوب کرنا، کو مہنگا سمجھنا۔ اغلی بمعنی غلّی نیز أغلٰی ہ کو عزیز یا قیمتی قرار دینا، کی قدر کرنا کو بہت عزیز رکھنا یا جاننا، کو سنبھال کر رکھنا، کو عزیز جاننا، آنکھ کا تارا سمجھنا، پیارا سمجھنا، کی تعریف کرنا، تغالٰی فی: میں حد سے تجاوز کرنا، حد سے زیادہ ہونا، بہت دور تک جانا۔ ۔ فی / ب: میں مبالغہ کرنا۔ ۔ اِستغلٰی ہ کو مہنگا پانا۔ غُلُو حد سے تجاوز، حد سے زیادہ۔ فضول خرچی اسراف، مبالغہ، غَلاء: زیادہ قیمت، قیمتوں کی بلند سطح، مہنگائی، زیادہ دام۔ غُلواء: حد سے تجاوز، حد سے زیادہ فضول خرچی۔ خفّف من غلوائہ: کی لگن کی ہمت شکنی کرنا، کے جوش کو لگام دینا۔ اَغلٰی زیادہ مہنگا، زیادہ قیمتی، مُغالاۃ حد سے تجاوز، حد سے زیادہ، فضول خرچی، اسراف، مبالغہ اِغلاء: تعریف کرنا، تعریف کے پل باندھنا، بڑھانا، بہت تعریف کرنا، تحسین، توصیف، مدح غالٍ مہنگا، قیمتی، عزیز، محبوب جمع غُلاۃ ۔ ایک انتہا پسند فرقہ کا پیرو، انتہا پسند، بنیادی تبدیلیوں کا حامی، کٹر حامی، کٹر، متعصب۔

غلی ا۔ غلَی ۔ غلْیًا و غَلَیانًا القدر حرارت کی طاقت سے ہانڈی کا جوش مارنا۔ غلّی تغلیۃً و اغلٰی اِغلاءً القدر: ہانڈی کو جوش دینا۔ المغلاۃ کیتلی، کڑھائی، دیگ، بائلر (Boiler) اسی سے ہے المغلاۃ الکھربائیۃ: یعنی برقی کیتلی، دیگ، بائلر وغیرہ۔ عام لوگ اسے غِلایۃ کہتے ہیں۔

۲۔ غلّی تغلیۃً و اغلٰی اغلاءً الرجلُ دور سے اشارہ سے سلام کرنا۔

۳۔ تغلّی خوشبو لگانا۔ الغالیۃ جمع غوالٍ: ایک مرکب خوشبو ہے جو مشک اور کافور سے بنتی ہے۔

۴۔ الغَلْیُون جمع غلابین حقہ۔

○ غلی ۔ غلْیًا و غَلَیانًا: کھولنا، ابلنا، جوش کھانا، خمیر اٹھنا، (الکحل مشروبات کا) غلّی ہ کو ابالنا، جوش دینا۔ اغلی بمعنی غلّی۔ غلْی و غَلَیان: ابلنا۔

غَلّایۃ جمع غلّایات بائلر boiler، کیتلی، کڑھائی، دیگ، آلۃٌ غلّایۃ بخاریہ سٹیم بائلر (Steem boiler)۔

۔ مَغلِی یخنی۔ پتلا شوربا، جوشاندہ۔ غَلْبُون جمع غلابین و غلاوین: قدیم ہسپانوی بحری جہاز۔

غلیون جمع غلامین: حقہ۔

غمّ ا۔ غمّ ۔ غمًّا ہ کو ڈھانکنا۔ القمرُ النجومَ: چاند کا ستاروں کی روشنی کو ماند کر دینا۔ ۔ الشیُّ الشیَّ: ایک چیز کا دوسرے کے اوپر ہونا۔ ۔ غَمَمًا: لمبے بالوں والا ہونا۔ صفت۔ اغمّ م غمّاء جمع غُمّ غمّ علیہ الامرُ پر معاملہ کا مخفی ہونا، پوشیدہ اور مبہم ہونا۔ اغمّت السماءُ آسمان کا بادل والا ہونا۔ اِغتمّ النباتُ نباتات کا لمبا اور بہت ہونا۔ اِنغمّ: ڈھک جانا۔ الاغمُّ منَ السحاب گھرا ہوا بادل، گھٹا ٹوپ بادل۔ لیلۃٌ غمّاءُ: ابر آلود رات، تاریک رات۔ الغُمّ جمع غُمَم: ہر وہ چیز جو دوسری کو چھپائے۔ کہا جاتا ہے ھو فی غُمّۃ وہ حیرت میں ہے۔ الغُمّی تاریکی، غبار۔ الغمام: بادل۔ غمامۃ جمع غمائم: بادل کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے ھو یفترّ عن مثل حب الغمام: وہ مسکراتا ہے تو اس کے سفید سفید دانت اولوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔

الغِمامۃ جمع غمائم چھینکا جسے اونٹ یا کتے وغیرہ کے منہ پر اس لئے باندھا جاتا ہے کہ تاکہ وہ نہ کاٹ سکے، نہ کھا سکے اور نہ پھونک سکے۔ جانور کی آنکھوں کے ایک طرف باندھی ہوئی چیز تاکہ وہ صرف سامنے دیکھ سکے، دائیں بائیں نہ دیکھے۔ الغُمُوم: چھوٹے مخفی ستارے۔ ارضٌ مُغِمّۃ بہت پودوں والی زمین۔ غیمٌ مُغَمْغِم بہت پانی والا بادل۔

۲۔ غمّ ۔ غمًّا ہ کو غمگین کرنا۔ غامّ مُغامّۃ ہ ایک دوسرے کو غمگین کرنا۔ أغمّ ہ کو غمگین کرنا۔ تغامّ غم ظاہر کرنا۔ اغتمّ غمگین ہونا۔ الرجلُ کا سانس رکنا۔ اِنغمّ غمگین ہونا ما أغمّکَ لی و علیّ والیّ: کس بات نے تجھے میرے لئے غمگین کیا؟ یہ بات تعجب کے موقع پر کہی جاتی ہے۔ الغامّ فا۔ یومٌ غامّ غم کا دن۔ الغمّ جمع غُموم و الغُمّۃ جمع غُمَم غم، حزن، بے چینی کرب۔ یوم غمٍّ غم کا دن لیلۃ غمٍّ و غمّۃ غم کی رات۔ الغُمّی و الغمّاء: غم، بے چینی، مصیبت، کہا جاتا ہے۔ مثلٌ یکشف الغمّاء: تجھ جیسا غم دور کر دیتا ہے۔ الغُمّی: شدت، سختی۔ الغُمُوم غم کی جمع۔

۳۔ غمّ ۔ غمًّا و اغمّ الیومُ دن کا سخت گرمی والا ہونا۔ یومٌ غامّ گرم دن۔ یوم غمٌّ گرم دن۔ لیلۃ غمٌّ و غمّۃٌ: گرم رات۔

۴۔ الغَمّۃ عند العامۃ (بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ کی) سری (جو بھون کر اور مصالحے لگا کر کھائی جاتی ہے) پائے، سری پائے۔ الغُمام: زکام۔ الغمیم: گرم کر کے گاڑھا کیا ہوا دودھ۔

۵۔ غمغمَ غمغمۃً الثورُ بیل کا خوف کے وقت ڈکارنا۔ ۔ الابطالُ بہادروں کا لڑائی میں آوازیں نکالنا۔ ۔ الکلامَ بات کو واضح نہ کرنا۔ الصبیُّ بچے کا دودھ کے لئے پستانوں پر رونا۔ تغمغمَ الغریقُ تحت الماء ڈوبنے والے کا پانی کے نیچے گڑگڑانا۔ ۔ الرجلُ واضح کلام نہ کہنا۔ الغمغمۃ (مص) جمع غماغم بیلوں کی خوف کے وقت اور بہادروں کی لڑائی کے دوران کی آوازیں اور شور۔ غیر واضح کلام

○ غمّ ۔ غمًّا ہ کو ڈھانکنا، چھپانا۔ ۔ ہ کو غمگین کرنا، کو رنجیدہ کرنا، تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا، کو مصیبت پہنچانا، مغموم کرنا۔ غُمّ علی پر یا کیلئے غیر واضح ہونا، مبہم ہونا، دھندلا سا ہونا، نا قابل فہم ہونا۔ غمّمَ ہ کو ڈھکنا، چھپانا، اغمّ آسمان کا بادلوں سے بھر جانا، پر بادل چھانا، ۔ ہ کو غم، تکلیف، رنج سے بھر دینا، کو تکلیف دینا، دکھ پہنچانا۔ مصیبت پہنچانا، مغموم کرنا۔ اِنغمّ مصیبت زدہ ہونا مغموم ہونا، پریشان ہونا، غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا دکھ پہنچنا سخت پریشان ہونا، فکر مند ہونا۔ اِغتمّ بمعنی اِنغمّ غمّ جمع غُموم بحث غم، دکھ، تکلیف، رنج والم، مصیبت، قہر، پتا، ملال، اندوہ، پریشانی غُمّۃ: بمعنی غمّ۔ غمام اسم جمع واحد غمامۃ جمع غمائم بادل۔ حبُّ الغمام: اولا، ژالہ۔ غِمام جمع غمائم چھینکا۔ آنکھوں کے دونوں طرف لگائی جانے والی چیز تاکہ جانور صرف سامنے دیکھ سکے۔ اغمّ مونث غمّاء: گھنے بالوں سے بھرا ہوا، لمبے موٹے بالوں والا، جھبرا، گھرے (بادل)۔ غامّ مُغامّ: پر ملال، رنج دہ، غمناک، اندوہگین، غم انگیز، دردناک، حزیں، تکلیف دہ، حبس والا، بے برسات کا حبس والا (دن، رات) مغموم: رنجیدہ، غمگین، پریشان، مصیبت زدہ، دکھی۔ مُغتمّ: بمعنی مغموم۔

غمتَ: غمِتَ ۔ غمْتًا ہ الطعامُ: کھانے کا دل پر بھاری ہونا اور کھانے والے کو مدہوش کر دینا۔ الشیَّ کو ڈھانکنا ۔ ہ فی الماء: کو پانی میں غوطہ دینا۔ غمتَ ۔ غمتًا: کھانے کا دل پر بھاری ہونا اور اس کی وجہ سے مدہوش ہو جانا۔

غمج: غمَج ۔ غمْجًا و غمَجَ ۔ غمَجًا الماءَ

گھونٹ گھونٹ کر کے برابر پانی پینا۔ الغَمجَۃ والغُمجَۃ جمع غُمَج گھونٹ۔

غمد: غَمَدَ ـِ غَمدًا السیفَ: تلوار کو میان میں کرنا۔ ـــ الشیءَ: کو چھپانا۔ ـــ الامرَ کی اصلاح کرنا۔ غَمِدَ ـَ غَمَدًا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔ ـــ ت البئرُ: کنویں کے پانی کا زیادہ ہونا، کم ہونا (ضد)۔ غَمَّدَہٗ: کا قصور چھپالینا۔ أغمَدَ السیفَ: تلوار کو میان میں کرنا۔ ـــ الاشیاءَ کو ایک دوسرے میں داخل کرنا۔ تغَمَّدَہٗ کا قصور چھپالینا۔ ـــ الاناءَ: برتن کو بھر دینا۔ ـــ ہٗ اللّٰہُ برحمتِہ اللہ کا کسی کو اپنی رحمت میں چھپالینا، اپنی رحمت کے سایہ میں رکھنا۔ اِغتَمَدَ اللیلُ: رات میں داخل ہونا جیسے وہ اس کے لئے میان ہوگئی۔ الغِمدُ جمع غُمُود و اَغماد: نیام، تلوار کا میان۔ (ز) وہ جگہ جہاں سے پتہ نکلتا ہے الأغماد مفرد غِمد: بعض حشرات کے بالائی پر۔ بئر غامِدٌ و غامِدۃٌ جمع غَوَامِد: وہ کنواں جس کا پانی مٹی سے ڈھکا ہوا ہو۔ سفینۃٌ غامِدٌ و غامِدۃٌ: بھری ہوئی کشتی۔ مَغمَدُ السیفِ: تلوار کا میان، نیام مُغمَداتُ الأَجنحۃ (ح) چار پروں والے بڑے درجہ کے حشرات جن کے بالائی پر نچلے پروں کے لئے غلاف کا کام دیتے ہیں۔

○ غَمَدَ ـِ غَمدًا ہ (تلوار) کو میان میں کرنا۔ تلوار کو نیام میں رکھنا۔ ـــ ہ تلوار کو کسی کے سینہ میں گھونپنا۔ غَمَدَہٗ برحمتہ: (اللہ کا) کسی کو اپنی رحمت سے محصور کرنا، پناہ دینا، کی حفاظت کرنا، کو ڈھانپ لینا، غَمَّدَہٗ: کی خامیاں، جرائم کو چھپالینا اَغمَدَ ہ (تلوار کو) میان میں کرنا۔ تَغَمَّدَہٗ برحمتہ (اللہ تعالیٰ کا) کسی کو اپنی رحمت کے حصار میں لینا، پناہ دینا، حفاظت میں لینا، کی پردہ پوشی کرنا، غِمد جمع أغماد وغُمُود نیام، میان۔

غمر ۱۔ غَمَرَ ـُ غَمرًا ہٗ الماءُ کو پانی کا ڈھانک لینا۔ کہا جاتا ہے۔ غمر فلانًا بفضلہ: اس نے فلاں پر بڑا احسان کیا۔ غَمُرَ ـُ غَمارَۃً و غُمُورَۃً الماءُ پانی کا زیادہ ہونا۔ غُمِرَ علیہ: پر بیہوشی طاری ہونا۔ غَمِرَ ـَ غَمَرًا و غَمرًا صدرُہ علَیّ اس کا سینہ میرے خلاف کینہ سے بھر گیا۔ ـــ تْ یَدُہٗ: کے ہاتھ پر گوشت کی چربی کا لگ جانا۔ غمَّرَ وجہَہٗ: چہرے پر زعفران ملنا۔ غامَرَ مُغامَرَۃً: سے سخت لڑائی کرنا اور موت کی پرواہ نہ کرنا۔ اَغمَرَہُ الحرُّ: کو گرمی کا کم ہو کر سفر پر جرأت دلانا۔ تَغَمَّرَ: چہرے پر زعفران ملنا۔ اِغتَمَرَ: پانی میں ڈوبنا۔ الماءُ الشیءَ کو پانی کا ڈھانک دینا۔ اِنغَمَرَ: پانی میں ڈوبنا، کودنا، گھسنا۔ الغَمرُ (مص) جمع غِمار و غُمُور: بہت پانی، سمندر کا بڑا حصہ، پورا کپڑا، شریف، وسیع الاخلاق، کہا جاتا ہے۔ ثوبٌ غَمرٌ یعنی کھلا کپڑا۔ لیلٌ غَمرٌ: سخت تاریک رات۔ غَمرُ الناسِ لوگوں کی جماعت: ھُوَ غَمرُ الرداءِ وہ بہت اچھے کام کرنے والا ہے، فیاض ہے، سخی ہے۔ ـــ جمع غُمُور: گوشت کی چکناہٹ۔ الغُمرُ (ن) زعفران۔ ورس سے بنائی ہوئی ایک چیز جو منہ پر لگاتے ہیں۔ الغِمر: کینہ، پیاس۔ الغُمرُ جمع غِمار و اَغمار: چھوٹا پیالہ۔ الغَمرُ جمع غُمُور: کینہ غَمرُ الناس لوگوں کی جماعت، گروہ۔ الغَمِر: چکنا، بہت چربی دار۔ الغُمرۃ: زعفران۔ الغَمرۃ جمع غَمَرات و غِمار و غُمَر: شدت۔ غَمرۃُ الشيءِ: سختی و تنگی۔ غمراتُ الموت موت کی تکالیف اور سختیاں۔ الغامِر (فا): اجاڑ زمین۔ الماءُ الغامِر: بہت پانی الغُمار و الغَمار و الغُمارۃ و الغَمارۃ: لوگوں کی جماعت۔ انبوہ۔ کہتے ہیں دخلتُ فی غُمارِ الناس: میں لوگوں کی بھیڑ میں داخل ہوگیا۔ الغَمِیر: بہت پانی۔ المُغامِر و المُغَمِّر: خطرات میں کود پڑنے والا۔ المُغتَمِر: مدہوش۔ طعامٌ مُغتَمِر: خشک بالیوں میں ڈھکا ہوا اناج المَغمُور (مفع): گمنام، غیر مشہور (کہا جاتا ہے۔ ھو مَغمُورٌ فیھم: وہ ان میں کسی شہرت کا مالک نہیں۔) مقہور مغلوب۔

۲۔ غَمُرَ ـُ غَمارَۃً و غُمُورَۃً الرجلُ آدمی کا جاہل ہونا۔ الغَمرُ والغِمرُ والغُمرُ جمع أغمار والغُمر جمع غُمُور ناتجربہ کار جاہل۔ الغَمارۃ: جہالت، ناتجربہ کاری۔

۳۔ غَمَرَ بالشیءِ کو پھینک دینا، دور کر دینا۔

○ غَمُرَ ـُ غَمارَۃً و غُمُورَۃً: بہت ہونا، وافر ہونا، فراوان ہونا، کثیر ہونا، بہ افراط ہونا، کی بہتات ہونا، بھرپور ہونا، کی کثرت ہونا، کی افراط ہونا (پانی کا) چھلکنا۔ غَمَرَ ـُ غَمرًا ہ کو زیر آب کرنا، کو سیلاب میں غرق کرنا۔ ـــ ہ بکو سے بھر دینا، ـــ ہ سے چھلکنا، کے کناروں سے باہر آنا۔ ـــ ہ بکوئی (سیال) چیز، سے ڈھکنا۔ ـ ب ہ کسی سیال چیز پر ڈالنا۔ ـــ ہ فی: کو میں رکھنا، بھگونا، تر کرنا۔ ـــ ہ/ ہ فی کو میں ڈبونا، کو میں بھگونا، شرابور کرنا، تر کرنا، کو میں رکھنا، کو میں جما دینا، کو میں مضبوطی سے لگا دینا۔ خصوصاً مجازاً کسی شخص یا چیز کو کسی گرد و پیش، ماحول یا فضا میں جما دینا یا مضبوطی سے لگا دینا۔ ـــ ہ/ ہ کو ڈھانکنا۔ دفن کرنا۔ ـــ ہ ب: کو کوئی چیز بے اندازہ عطا کرنا، پر کا ڈھیر لگا دینا، پر کچھ لاد دینا، پر کی بوچھاڑ کرنا، پر کی بھرمار کرنا۔ پر کی بارش کرنا، کو سے سرفراز کرنا۔ ـــ ہ/ ہ (احساسات کا) کے دل کو بھر دینا، کے دل میں سرایت کرنا، رچ بس جانا۔ غامَرَ ہ/ فی: میں اندھا دھند کود جانا، اپنے آپ کو سر کے بل میں پھینک دینا ـ: جان جوکھوں میں ڈالنا، خطرناک کام کا بیڑا اٹھانا۔ ـــ ب: کا خطرہ، مول لینا، غامَرَ بنفسہ: جان جوکھوں کے بہادروں کے کاموں میں مشغول ہونا، اپنی زندگی کو خطرہ میں ڈالنا اِغتَمَرَ ہ کو ڈھکنا، دفن کرنا، نگل جانا، ہڑپ کر جانا، غَمر ج غِمار و غُمُور: سیلاب طوفان (اپنے مجازی معنی میں بھی): ہمہ گیر، سیلابی، کناروں سے باہر نکلنے والا (پانی) نہایت فیاض، انتہائی سخی، غُمر و غُمر جمع أغمار: ناتجربہ کار، سادہ لوح، سادہ، صاف دل۔ غَمرۃ جمع غَمَرات و غِمار: سیلاب، طوفان، زیر آب کرنا، (جذباتی) افراط جمع غِمار: سیلاب (مجازاً واقعات وحوادث کا) آفات، مصائب، سختیاں (زندگی، جنگ کے) اتار چڑھاؤ۔ افراط اور بہتات (جیسے علم و معرفت کی)۔ غَمَراتُ الموت: موت کے شدید درد، موت کی کشمکش۔ غُمر جمع اغمار بازو بھر غِمار خطرہ، جوکھوں، مُغامَرۃ جمع مُغامَرات: خطرے والا یا احمقانہ کام، مہم، جان بازی کا کام، جوکھوں کا کام، اولوالعزمی کا کام، طالع آزمائی، خطرہ، جوکھوں، غامِر: کناروں سے بہتا ہوا، ہمہ گیر، بہت، با افراط، بکثرت، فراوان، بہت، اجاڑ، بنجر، خالی (زمین)۔ مَغمُور: غیر معروف، انجانا، غیر واضح، مبہم، دھندلا سا مُغامِر: اندھا دھند کام کرنے والا، غیر محتاط، من چلا، طالع آزما، جان باز، عیار، زمانہ ساز۔

غمز ۱۔ غَمَزَ ـِ غَمزًا ہٗ کو ہاتھ سے ٹٹولنا۔ ـــ القناۃَ نیزہ کو آزمانے کے لئے دانتوں سے دبانا ـــ الغامِز (فا) نیزہ کی آزمائش کرنے والا۔ الغَمّازۃ: اسم مبالغہ۔

۲۔ غَمَزَ ـِ غَمزًا بالرجل وعلیہ: کو طعنہ دینا اور اس سے برائی کی کوشش کرنا۔ غَمَزَ عیبُہ او داؤہٗ کا عیب یا بیماری ظاہر ہونا۔ غامَزَ مُغامَزَۃً: پر عیب لگانا ـــ اَغمَزَہٗ: ناکارہ جانور خریدنا ـــ فیہ کی عیب جوئی کرنا، کی شان گھٹانا ـــ اِغتَمَزَہٗ: کو طعنہ دینا ـــ الکلمۃ: کلمہ کو کمزور سمجھنا ـــ الغَمز جمع غمز جمع ـــ و اغماز نکمے مویشی، کمزور آدمی۔ کہا جاتا ہے ـــ ھو

رجلٌ غَمِزٌ من قوم غَمِزٍ او اَغْماز: وہ کمزور قوم کا ایک کمزور آدمی ہے۔ الغمیز: نمایاں عیب ــــ الغمیزۃ: برائی نقص، کمزوری (عقل یا کام کی) کہا جاتا ہے ـ مافیه غمیزۃ: اس میں کوئی نقص ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ ــ المَغْمَز جمع مغامز عیب، طعن یا طمع کی جگہ کہا جاتا ہے ـ مافیه مَغْمَزٌ: اس میں کوئی نقصان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں، جس کی طمع کی جائے۔ المَغْمُوز (مفع) ملزم، متہم۔

۳۔ غَمَزَ ـِـ غَمْزًا ہٗ بالعین او الجفن او الحاجب: کی طرف آنکھ یا ابرو وغیرہ سے اشارہ کرنا ــــ تغامَزَ القومُ: ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرنا۔ ــ الغمّازۃ (عندالعامة): چھوٹا سا گڑھا، جو مسکراہٹ کے وقت رخساروں پر پیدا ہو جاتا ہے۔

۴۔ غَمَزَ ـِ غَمَزَاتِ الدابةُ: جانور کا لنگڑا ہونا۔

○ غَمَزَ ـِ غَمْزًا ہ / ہ ب کو سے محسوس کرنا چھونا ــ ہ ب: کو سے اشار کرنا ــ ہ: کو آنکھوں سے اشارہ کرنا، کو آنکھ مارنا ــ ب: پلک جھپکنا ــ ب / علی: پر بہتان باندھنا، کو بدنام کرنا، کی بدگوئی کرنا۔ غَمَزَ الجرسَ: گھنٹی کا بٹن دبانا، غَمَزَ قناتَهٗ: کو ٹھونک بجا کر دیکھنا، کی گہرائی میں جانا، کی نبض دیکھنا۔ تغامَزَ: ایک دوسرے کو اشارہ کرنا، ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کرنا۔ آنکھ مارنا۔ اِغتمزَہ: کی قدر گھٹانا کو کم کرنا، گھٹانا، کرکرا کرنا۔ ـــ ہ: کو گھٹا کر بتانا، برے لفظوں میں بیان کرنا، کی مذمت کرنا، برائی کرنا، میں نقص نکالنا، پر عیب لگانا، کو بدنام کرنا، کی تحقیر کرنا غَمْزَۃ جمع غَمزات: نشان، اشارہ، آنکھوں سے اشارہ، طعنہ، آوازہ، غَمّازۃ: مسکراتے وقت رخساروں میں پیدا ہونے والا چھوٹا سا گڑھا غَمیزَۃ: عیب، نقص، کمزوری، داغ، دھبہ (کردار پر) مَغْمَز: کمزوری، نقص، عیب، کمی خامی (کردار پر) داغ یا دھبہ، کمزور جگہ، شک پیدا کرنے والی بات ایسی بات جو تنقید، طعنوں وغیرہ کو دعوت دے۔

غمس: ۱۔ غَمَسَ ـِ غَمْسًا الشئَ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا، غوطہ دینا۔ ـ السنانَ فی صدرہ: بھالے کو کے سینہ میں گھونپنا۔ ـ غُمُوسًا النجمُ: ستارہ کا ڈوبنا۔ غَمَّسَ ہٗ: کو زور سے ڈبونا، غوطہ دینا۔ ــــ الابلَ: اونٹوں کو پانی پلا کر واپس چلا جانا۔ غامَسَ مُغامَسَۃً: اپنی جان کو لڑائی یا خطرہ میں ڈالنا۔ ــــ فلانًا: ایک دوسرے کو پانی میں غوطے دینا اِنغَمَسَ و اغتَمَسَ فی الماء: پانی میں غوطہ کانا۔ ــ فی الشئ: میں داخل ہونا، گھسنا۔ الغَمّاسۃ جمع غَمّاس (ح): مرغابی، مینڈک۔ طَعْنَۃٌ غَمّاسۃٌ: بڑا زخم لگانے والا وار۔ الغَمُوس جمع غُمُس: مصیبت میں ڈالنے والا معاملہ۔ ــ من الرجال بخت بہادر۔ کہا جاتا ہے۔ طعنۃٌ غَمُوسٌ: پار ہو جانے والی نیزہ کی ضرب۔ الیمین الغَمُوس: ارادۃً کھائی ہوئی جھوٹی قسم۔ الغَمِیس: تاریکی، جھاڑی، درختوں کا جھنڈ۔ لیلٌ غَمِیسٌ: تاریک رات۔ الغَمِیسَۃ: جھاڑی، درختوں کا جھنڈ۔

۲۔ غَمَّسَ الشرب: کم پینا۔

۳۔ غامَسَ مُغامَسَۃً فی الامر: میں جلدی کرنا۔

○ غَمَسَ ـِ غَمْسًا ہ / ہ فی: کو میں ڈبو دینا۔ پھینک دینا، بھگونا، شرابور کرنا، تربتر کرنا، ڈبونا۔ غَمَّسَ بمعنی غَمَسَ۔ اِنغَمَس: ڈبکی لگانا۔ پھینکا جانا، بھیگ جانا، ڈوب جانا، ــــ فی: اپنے آپ کو میں پھینکنا، میں چھلانگ لگانا۔ اغتمس بمعنی انغمس۔ غَمُوس: بدشگونی والا، بدشگون، منحوس، آفت رساں، مصیبت بھرا، مصیبت انگیز، مَغْمُوس ب / فی: میں ڈوبا ہوا۔

غمش: غَمِشَ ـَ غَمَشًا: اشک بہنے سے چندھا ہو جانا صفت اَغْمَش

غمص: ۱۔ غَمَصَ ـِ و غَمِصَ ـَ غَمْصًا ہٗ: کو حقیر جاننا۔ ـ النعمةَ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ علیه کلامَهٗ: پر عیب لگانا۔ اِغْتَمَصَ ہٗ: کو حقیر جاننا، گھٹیا سمجھنا۔ رجُلٌ غَمِصٌ: عیب جوئی کا عادی رجُلٌ مَغْمُوصٌ علیه: دین یا حسب میں عیب لگایا ہوا آدمی۔

۲۔ غَمَصَ ـِ و غَمِصَ ـَ غَمْصًا علیه: پر جھوٹ بولنا۔ الغَمُوس: جھوٹا۔ یمینٌ غَمُوصٌ: جھوٹی قسم۔

۳۔ غَمِصَ ـَ غَمَصًا: آنکھ کا کیچڑ والی ہونا۔ ــ ت عینُهٗ: کی آنکھ کا کیچڑ بہنا صفت اَغْمَص اَغْمَص: جس کی آنکھ سے کیچڑ بہتا ہو۔ اور وہ آنکھ جس سے کیچڑ بہتا ہو غَمْصاء جمع غُمْص کہلاتی ہے۔ الغَمَص (مص): آنکھ کا کیچڑ۔

○ غَمَصَ ـِ غَمْصًا ہ / ہ: کی بے توقیری کرنا، کو حقیر جاننا، کو گھٹا کر بتانا، بُرے لفظوں میں بیان کرنا، کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہ کر سکنا، سے نفرت کرنا، کو حقارت سے دیکھنا، کو ذلیل جاننا، اَغْمَص: چندھا۔

غمض: ۱۔ غَمَضَ ـُ غُمُوضًا الکلامُ: کلام کا دقیق اور پیچیدہ ہونا۔ ــ غَمْضًا السیفُ فی اللحم: تلوار کا گوشت میں گھس جانا۔ ــ الرجُلُ فی الارض: ملک میں پھرنا، غَمُضَ ـُ غموضا الکلامُ: کلام کا دقیق اور پیچیدہ ہونا۔ غَمُضَ ـَ غُمُوضَۃً و غَماضَۃً المکانُ: جگہ کا پست ہونا۔ غَمَّضَ الکلامَ: کلام کو مبہم کرنا۔ عینَهٗ: آنکھ بند کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ غَمَّضَ عن الاِساءَۃِ: اس نے جرم سے چشم پوشی کی اَغْمَضَ عینَهٗ: آنکھ بند کرنا۔ کہا جاتا ہے اغمضت العینُ فلانًا: آنکھ نے فلاں شخص کو حقارت سے دیکھا۔ اَغْمَض عن الشئ: سے تجاوز کرنا، چشم پوشی کرنا۔ اَغمض علی کذا: کو برداشت کرنا، پر راضی ہونا۔ اِغْمَضَ البرقُ: بجلی کا چمکنا بند ہونا۔ الرجلُ عن الاِساءَۃ: جرم سے چشم پوشی کرنا۔ ما اغتمضت عیناہ: اس کی آنکھ نہیں لگی۔ اِنغَمَضَ طرفُهٗ: آنکھ بند ہونا۔ الغَمْضُ (مص): جمع غُمُوض و اَغْماض: پست زمین کہا جاتا ہے۔ فلانٌ ذو غُمُضٍ: فلاں شخص گمنام اور ذلیل ہے۔ الغُمْضُ و الغِماض و الغَماض و التغْماض: آنکھ کی جھپکی، نیند، کہا جاتا ہے۔ ما اکتحلت عینی غَمْضًا او غماضا او اغماضًا او تغماضًا او تُغْمِیضًا: یعنی میں نہیں سویا الغامِض (فا) جمع غَوامِض: پست زمین، گمنام، ذلیل امرٌ غامِضٌ: مبہم معاملہ۔ الخلخال الغامِض: پازیب جو پنڈلی کو بھر دے۔ الغامِضَۃ جمع غامِضات و غَوامِض: غامض کا مونث۔ الدارُ الغامِضَۃُ: سڑک سے علیحدہ گھر۔ الغُمُوضَۃ: خرابی، نقص، برائی۔ کہا جاتا ہے۔ مافی هذا الامر غُمُوضَۃ: اس معاملہ میں کوئی خرابی نہیں۔ الغَمِیضَۃ: عیب، خرابی، نقص الغُمَّیضَۃ: آنکھ مچولی والا کھیل۔ الاِغْتِماض (مص): کہا جاتا ہے۔ اتلی ذلك علی اغتماض: یعنی وہ مجھے کسی زحمت کے بغیر مل گیا۔ المَغْمَض جمع مَغامِض: پست زمین۔ المُغْمِضات: جانتے بوجھتے کئے جانے والے گناہ۔ مُغْمِضات اللیل: رات کی تاریکیاں۔

۲۔ غَمَضَ ـِ غَمْضًا و غَمَّضَ عنه فی البیع: سے خرید و فروخت میں رعایت و نرمی برتنا۔ اَغْمَضَ عنه فی البیع: سے خرید و فروخت میں رعایت اور نرمی برتنا۔ ــ فی السلعة: سامان تجارت کے گھٹیا ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹانا۔

۳۔ اَغْمَضَ فلانًا: دوڑ میں کسی سے آگے نکل جانا۔

۴۔ الغامِض جمع غَوامِض من الکعوب و السوق: ٹخنہ یا موٹی پنڈلی۔ غَوامِض الابل: چھوٹے اونٹ

○ غَمَضَ ـُ و غَمُضَ ـُ غُمُوضًا: چھپا ہونا، مخفی ہونا، چھپنا، (آنکھ) بند کرنا، دھندلا ہونا، تاریک ہونا، مشکل ہونا۔ عسیر الفهم ہونا، پیچیدہ اور دقیق ہونا، مغلق ہونا۔

نا قابل فہم ہونا۔ غَمَّضَ ہ: کو دھندلا کرنا، مبہم بنانا، تاریک کرنا، مشکل اور عسیر الفہم بنانا مغلق بنانا۔ عینیہ عن: سے، کی طرف، پر، کے سامنے، اپنی آنکھیں بند کرلینا۔ ـــ: سوجانا، سویا ہوا ہونا۔ غمض جُفُونَه علی القَذَی: تحمل سے تکلیف برداشت کرنا، کڑوی گولی نگلنا، کھسیانی ہنسی نکالنا اور بھگتنا۔ اَغْمَضَ عینیه عن: کے لئے کسی کی آنکھوں کو دھندلا کرنا، دھندلا نایا دھیما سا کرنا، کو کے متعلق اندھا کرنا، سے آنکھیں بند کرلینا، پر، کی طرف، کے سامنے آنکھیں بند کرنا۔ ـــ عن: کو نہ دیکھنے کا بہانہ کرنا، ظاہر کرنا کہ وہ کو نہیں دیکھ رہا۔ کے متعلق اندھا بننا، کو نظر انداز کرنا، سے چشم پوشی کرنا، سے اغماض کرنا۔ ـــ علی / عن: کو برداشت کرنا، جھیلنا، اَغْمَضَ من عینیه: آنکھیں بند کرنا، کو دیکھنے سے انکار کرنا، اِنْغَمَضَ: آنکھ کا بند ہونا اِغْتَمَضَ: آنکھ کا بند ہونا، ہوجانا، سویا ہوا ہونا عمص: نیند غَمْضَة: جگمگاہٹ، چمک، آنکھ جھپکنا، جھلملانا، فی غَمْضَةِ عَیْنٍ: ابھی، ایک منٹ میں۔ غِماض بمعنی غَمْضَة۔ غُمُوض: تاریکی، دھندلاپن، ابہام، گمنامی، مغلق ہونا، راز، سربستہ راز، بھید، نامعلوم شے، پراسراریت، ناقابل توجیہ ہونا، عدم وضوح، غیر یقینی حالت، غیر یقینی صورتحال، غُمُوضَة: دھندلاہٹ، تاریکی، ابہام، عدم وضوح، عسیر الفہمی، پیچیدگی، دقت، مغلق ہونا، اَغْمَض: زیادہ دھندلا، زیادہ تاریک، زیادہ مبہم، زیادہ گمنام، زیادہ غیر معروف، زیادہ خفیہ، زیادہ پیچیدہ، زیادہ غامض: زیادہ نامعلوم، زیادہ غیر معروف۔ غَامِض جمع غَوَامِض: پوشیدہ، چھپا ہوا، تاریک، دھندلا سا، غیر واضح، مبہم، ذومعنی، مشکوک، مشتبہ، مشکل، عسیر الفہم، پیچیدہ، دقیق ناقابل فہم، ناقابل ادراک، پراسرار، جس کی تہہ تک نہ پہنچا جا سکے۔ خفیہ، پیچیدہ۔ معمہ سا۔ غَامِضَة جمع غامضات وغَوَامِض: غیر حل شدہ مسئلہ، پہیلی، معما، عقدہ، چیستان، بھید، راز، سربستہ راز، نامعلوم شے، غوامِضُ افکارِہ: کسی کے دلی یا قلبی یا گہرے خیالات۔

غمط: ا۔ غَمَطَ ـِ وغَمِطَ ـَ غَمْطًا ہ: کو حقیر جاننا، سے حقارت کرنا، ـــ النعمةَ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ ـــ الحقَّ: حق کا انکار کرنا۔

۲۔ غَمَطَ ـِ وغَمِطَ ـَ غَمْطًا الماءَ: زور سے پانی کا گھونٹ بھرنا۔ غَامَطَ مُغَامَطَةً فی الشرب: لگا تار گھونٹ لینا۔

۳۔ غَمَطَ ـِ وغَمِطَ ـَ غَمْطًا الذبیحةَ: ذبح کرنے کے جانور کو ذبح کرنا۔

۴۔ اَغْمَطَ علیه الشیُ: کے ساتھ ہمیشہ ہونا، دائمی ہونا۔

۵۔ تَغَمَّطَ علیه الترابُ: کو مٹی کا ڈھانپ کر مار ڈالنا۔ اِغْتَمَطَ الشیُ: نگل جانا پھر اس کا کوئی نشان نہ ملنا۔ ـــ ہ بالکلام: کو باتوں سے مغلوب کرنا۔ ـــ ہ: دوڑ میں ہارنے کے بعد سے آگے بڑھ جانا۔ الغَمْط: پست زمین۔

○ غَمَطَ ـِ وغَمِطَ ـَ غَمْطًا ہ: سے نفرت کرنا، کو حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، کو گھٹا کر بتانا، کو برے لفظوں میں بیان کرنا، کی صحیح قوت و قیمت کا اندازہ نہ کرسکنا۔ ـــ ہ: کی ناشکری کرنا۔ غمطه حَقَّهُ: کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کرلینا، کے حقوق تسلیم کرنے سے انکار کر دینا۔

○ غَمْغَمَ: منہ ہی منہ میں کچھ کہنا، بڑبڑانا۔ غَمْغَمة: جمع غَمَاغِم: چیخ پکار۔ جنگ کی چیخ و پکار

غمق: ا۔ غَمَقَ ـُ وغَمِقَ ـُ وغَمُقَ ـُ غَمْقًا المكانُ: جگہ کا تر و نمناک ہونا۔ عام لوگ غَمِقَ المکانُ کو غَمِقَ المکانُ کے معنی میں لیتے ہیں (جس کا معنی ہے جگہ کا کشادہ ہونا، دور ہونا، دراز ہونا، اس معنی میں اس کی صفت غمیق بمعنی عمیق آتی ہے)۔ ـــ النباتُ: نباتات کا نمنا کی کثرت سے خراب ہوجانا۔ صفت غَمِق مونث غَمِقَة

۲۔ غَمِقَ البعیرُ: اونٹ کا غمقہ کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ الغَمَقَة (طب) پیٹھ میں لگنے والی بیماری۔ المَغْمُوق: غمقہ کی بیماری میں مبتلا۔

○ غَمِقَ ـَ غَمَقًا و غَمَقَ ـُ و غَمُقَ ـُ غَمْقًا: نم ہونا، سیلا ہونا، مرطوب ہونا، بھیگا ہونا، بھیگا سا۔ بھیگا بھیگا ہونا، تر ہونا۔ غَامِق: کالا (رنگ)

غمل: ا۔ غَمَلَ ـُ غَمْلًا الشیَ: کو چھپانا، کی اصلاح کرنا، کو درست کرنا۔ ـــ فلانًا: کو پسینہ لینے کے لئے ڈھانکنا۔ ـــ البسرَ: گدر کھجور کی پال دبانا۔ ـــ العِنَب فی الزبیل: انگوروں کو برتن میں تہ بہ تہ رکھنا۔ ـــ و تَغَمَّل النباتُ: پودوں کا ایک دوسرے پر چڑھنا۔ غَمِلَ ـَ غَمَلًا: تہ بہ تہ ہونے کی وجہ سے بدبودار ہونا الغَمِیل جمع غَمْلی: پیچیدہ اگی ہوئی گھاس۔ ـــ من الارض: پست زمین المَغْمُول (مفع): گمنام۔

۲۔ غَمَلَ ـُ غَمْلًا و تغمَّل الشیُ: وسیع ہونا۔

۳۔ غَمِلَ ـَ غَمَلًا الجرحُ: پٹی کی وجہ سے زخم کا خراب ہونا صفت غَمِل اَغْمَلَ الاهابَ: کچے چمڑے کو خراب ہونے کے لئے چھوڑ دینا۔ ـ اِنْغَمَلَ الادیمُ: چمڑے کا خراب ہوجانا۔ صفت غَمِیل۔

۴۔ الغُمْلَجِ والغُمْلُجِ والغِمْلاج: غیر مستقل مزاج آدمی۔ مونث کو غُمْلَج اور غَمَلَّج کہا جاتا ہے۔ الغُمْلُج: موٹا اور لمبا آدمی الغُمْلُوج: غیر مستقل مزاج آدمی، مونث غُمْلُوجَه۔ جمع غَمَالیج (ز): سایہ میں اگی ہوئی شاخ الغِمْلیج: غیر مستقل مزاج آدمی (مونث غِمْلیجة) فربہ اندام لمبا شخص۔

○ غَمْلَج وغِمْلاج: متلون، ناپائیدار، بے اصول، بے قاعدہ، بے ثبات، غیر یقینی، بدلتا رہنے والا۔

غمن: غَمَنَ ـُ غَمْنًا الشیَ: کو چھپانا، البُسرَ: گدر کھجور کی پال دبانا۔ فلانًا: کپڑے ڈال کر کسی کو پسینہ لانا۔ غَمِنَ وانْغَمَنَ فی الأرض: میں دفن کیا جانا، میں غائب ہونا۔

غمو: غَمَا ـُ غَمْوًا البیتَ: گھر کو مٹی اور لکڑی سے ڈھکنا۔ الغَما تثنیه غَمَوَان جمع اَغْمِیَة و اَغْماء (ب): مکان کی چھت یا چھت کی مٹی وغیرہ۔

غمی: غَمَی ـِ غَمْیًا وغَمَّی البیتَ: گھر کو مٹی اور لکڑی ڈال کر ڈھکنا۔ غُمِیَ واُغْمِیَ الیومُ: دن بھر ابر چھایا رہنا۔ ـــ علی المریض: بیمار پر بے ہوشی طاری ہونا صفت مَغْمِی ومُغْمًى علیه الغَمَی: وہ چیز جس سے گھوڑے کو پسینہ لانے کے لئے ڈھانپا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ رجلٌ غَمًى: بیہوش آدمی، جس پر غشی طاری ہو۔ جمع کی صورت میں کہا جاتا ہے۔ رجالٌ غَمًى وأَغْمَاء: غش کھائے ہوئے مرد۔ و الغِمَاء جمع اَغماء وأغْمِیَة: مکان کا چھت۔

○ غَمَی ـِ غَمْیًا ہ: مکان پر چھت ڈالنا۔ مکان چھتنا، غُمِیَ علیه: غش کھانا، کو غش آنا، غش کھا کر گرنا، بیہوش ہونا، غَمَّی: (آنکھ مچولی میں) آنکھ پر پٹی باندھنا۔ اُغْمِیَ علیه: غش کھانا، کو غش آنا، غش کھا کر گرنا، بیہوش ہونا۔ غَمْی واِغماء: غشی، غش، بیہوشی لُعْبَةُ الاسْتِغْمَایَة: آنکھ مچولی۔ مَغْمِی و مُغْمًى علیه: بیہوش، غشی میں۔

غنّ: ا۔ غَنَّ ـَ غَنًّا النخلُ: کھجور کا پکنا۔ ـــ الوادی: وادی کا بہت درختوں والی ہونا، وادی میں درختوں کی بہتات ہونا۔ غَنَّنَ الروضَ: باغ کو سرسبز اور ہرا بھرا کرنا، باغ کو بہت درختوں اور سبزے والا کرنا۔ اَغَنَّ الشجرُ: درخت کا پکنا۔ الوادی: وادی میں درختوں کی بہتات ہونا، وادی کا بہت درختوں والی ہونا۔ ـ الروضَ: باغ کو سرسبز اور ہرا بھرا کرنا۔ الوادی الأغَنّ م غَنَّاء: بہت درختوں اور گھاس والی وادی۔ القریة الغَنَّاء: آباد گاؤں۔

۲۔ غَنَّ ـَ غَنًّا و غُنَّة: ناک سے بولنا، زکام کے باعث ناک میں بولنا، غُرغُر کرنا۔ اَغَنَّ الذبابُ: مکھی کا

بھنبھانا۔ ــــ الرجلُ گُم آواز نکلنا۔ الغُنَّۃ بھی کی بھنبھناہٹ۔ الـغُـنّۃ ناک میں سے نکلنے والی آواز۔ الأَغَنّ م غَنَّاء ناک سے بولنے والا، کہاجاتا ہے۔ رجُلٌ اَغَنّ و امرأۃ غَنّاء و ظَبیٌ اَغنّ آدمی، عورت ہرن جوناک سے آواز نکالے۔ اَغَنّ: حرف جبلّ سے غنہ کا حرف۔

⊙ غنّ: متکلم کا صیغہ غَنِنْتُ ــ غُنَّۃ ناک سے بولنا۔ غُنّۃ ناک سے نکلنے والی آواز، (شکایت یاافسوس کی) آواز جمع غُنّات۔ اغن م غنّاء ناک کا، ناک سے نکلنے والی (آواز) سریلی، دلکش، خوشگوار، پُر یابلند (آواز) بہ افراط گھنا اور طراوت والا اور رنگارنگ سبزہ والا (باغ)

غنث: غَنِثَ ـ غَنَثًا الرجلُ سانس لے لے کر پینا۔ ت نفسُہٗ جی متلانا۔ تَغَنَّثَ ہٗ الشیُٔ بوجھل ہونا، بھاری ہونا، سے چمٹنا۔

غنج: غَنِجَ ـ غَنجًا و تغنّجَ ناز و نخرہ کرنا صفت۔ غَنِج و مِغناج مونث غَنِجَۃ و مِغناجۃ ج کل کے بعض ادباء غنو بھی کہتے ہیں الغُنج و الغُنُج والغُناج ناز و نخرہ الغِناج کاجل جس کو عورتیں گودنے کے لئے استعمال کرتی ہیں۔ الأُغنوجۃ جمع اغانیج ناز و نخرہ کرنے کی چیز

⊙ غَنِجَ ـ غُنجًا و تَغَنَّجَ (ت المرأۃ: نخرے کرنا، ناز نخرے کرنا، عشوہ گر ہونا، ناز و ادا کرنا۔ غُنج عشوہ گری، دکھاوے کی محبت، ناز و نخرہ، ناز و ادا، چونچلے، جلوہ فروشی، اٹھلانا ــــ غَنِجۃ عشوہ گر، ناز نخرہ کرنے والی، ناز و ادا کرنے والی، چونچلے باز، جلوہ فروش، اٹھلانے والی۔ مِغناج نازنین، دکھاوے کی محبت کرنے والی۔

غند: تَغَنْدَرَت المرأۃُ بانکی، چھیل چھبیلی چال چلنا، چھیل چھبیلوں والا انداز اختیار کرنا، صفت مونث غُندُورَۃ مذکر غُندُور (عام زبان میں) الغُنْدَر و الغُنْدُر من الغِلمان موٹا تازہ لڑکا۔ الغُندرۃ ناز نخرہ والی چال (عام زبان میں)

⊙ غُـنـدُر موٹا، گول مٹول، گداز بدن، غُـنـدُر جمع غَـنادِر بانکا، چھیلا، چھیل، چھبیلا، تَغَندَرَ بانکا، چھیل چھبیلا ہونا۔

غندقجی اسلحہ ساز، بندوق ساز

غنغرینا: جسم کا گلنا، فساد نسیج Gangrene

غنص: غَنِصَ ـ غَنَصًا تنگ سینہ والا ہونا۔

غنظ: غَنَظَ ـ غَنظًا مرنے کے قریب ہونا قریب بہ ہلاکت کرنا۔ ــــ الامرُ فلانًا پر مشکل ہونا۔ واَغْنَظَ ہٗ کو غصہ سے بھر دینا۔ غَانَظَ ہٗ پر سختی کرنا، ایک دوسرے کو مشقت میں ڈالنا۔ الغَنظ و الغَنَظ و الغَنَاظ و الغِناظ ہر وقت لگا رہنے والا رنج و غم۔ المَغنُوظ (مفع) غمگین

غنف: الغَنافِلیُون (ن) ایک پودا جس کے پیلے یا سفید پھولوں کے ہار بنا کر قبروں پر رکھے جاتے ہیں۔

غنم: غَنِمَ ـ غُنمًا الشیَٔ کو مفت پانا۔ ــــ غُنمًا وغَنَمًا و غَنمًا و غَنِیمَۃً و غُنمانًا غنیمت حاصل کرنا۔ غَنَّمَ ہٗ کذا کو اس کے حصہ سے زائد دینا۔ اَغنَمَ ہٗ الشیَٔ کو (مال) غنیمت دینا۔ تَغَنَّمَ واغتَنَمَ واستَغنَمَ الشیَٔ کو غنیمت سمجھنا، سے فائدہ اٹھانا الغُنم جمع غُنُوم والغَنِیم والغَنِیمۃ جمع غَنَائِم غنیمت جو جنگ میں حاصل کی جائے۔ (عموماً) کمائی، کہاجاتا ہے۔ غَنِیمَۃٌ بارِدۃٌ غنیمت جو بغیر مشقت کے ملے۔ کہتے ہیں۔ الغُنم بالغُرم کمائی غُرم کے بالمقابل ہے چنانچہ جس طرح مالک کمائی کا اکیلا مالک ہوتا ہے۔ اوراس میں کوئی اوراس کا شریک نہیں ہوتا اس طرح جرمانہ بھی اکیلے ہی برداشت کرتا ہے۔ الغَنَّام بہت مال غنیمت حاصل کرنے والا۔ المَغنَم جمع مَغانِم غنیمت، کہاجاتا ہے۔ مَغنَمٌ بارِدٌ یعنی اچھی غنیمت۔ غُنامَاك ان یفعل کذا تمہاری کوشش کی انتہا یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ یہ کرسکتے ہو۔

۲۔ تَغَنَّمَ فلانٌ بکریاں حاصل کرنا۔ جیسے تَابَّلَ کا معنی ہے اونٹ حاصل کرنا۔ الغَنَم جمع اَغنام وغُنُوم و اَغانِم (ح) بکریاں واحد شاۃ۔ غَنَمٌ مُغنَمَۃٌ و مُغَنَّمۃ بہت بکریاں۔ الغَنَّام بہت بکریوں والا۔ بکریاں چرانے والا۔ بکریوں کا چرواہا۔

⊙ غَـنِـمَ ـ غُنمًا و غَنمًا و غَنَمًا و غَنِیمۃً غنیمت حاصل کرنا۔ ــــ ہٗ کو جنگ کے مال غنیمت کے طور پر حاصل کرنا، لینا، کو فتح کرنا، حاصل کرنا، پانا ــ لوٹ مار کرنا، لوٹنا، تاخت و تاراج کرنا، غارت گری کرنا، چرانا، غبن کرنا، تباہ کردینا۔ غَـنَّـمَ ہٗ کو کچھ بے غرضی سے دینا، کو کچھ عطا کرنا، کو کچھ مرحمت کرنا۔ اَغنَمَ ہٗ کو کچھ بطور مال غنیمت دینا۔ اِغتَنَمَ ہٗ کو بطور جنگی مال غنیمت لینا، کو فتح کرنا۔ اِغتَنَمَ الفُرصۃَ: موقع سے فائدہ اٹھانا۔ استَغنَمَ موقع سے فائدہ اٹھانا۔

غنم: غنیمت، مال غنیمت، لوٹ کا مال، ناجائز آمدنی، نفع، فائدہ، کمائی، بخشش۔ غنیمۃ باردۃ آسان شکار۔ راض من الغنیمۃ بالایاب: اپنی جان بچانے پر خوش۔ اقتنع من الغنیمۃ بالایاب خالی ہاتھ لوٹنا پڑنا، کچھ کئے بغیر لوٹنا پڑنا۔ غانِم کامیاب، عاد سالمًا غانمًا وہ بخیر و عافیت لوٹا۔

غنو: الغُنوۃ بے نیازی کہاجاتا ہے لہٗ عنہ غُنوۃٌ وہ اس سے بے نیاز ہے۔

غنی: غَنِیَ ـ غِنًی و غَناءً و غُنیانًا مال دار ہونا۔ ــــ بالشیِٔ من غیرہ دوسرے کی چیز پر ہی اکتفاء کرنا، پر ہی بس کرنا۔ غَنَّی تَغنیۃً ہٗ اللہُ اللہ کا کسی کو مالدار بنانا۔ اَغنَی اِغناءً الرجلَ کو مالدار بنانا۔ ــ عنہ کو کافی ہونا۔ کہاجاتا ہے۔ اَغنَی عنہ غَناءَ فلانٍ و مَغناہ و مُغناہ و مَغناتَہٗ و مُغناتَہٗ کا قائم مقام ہونا۔ مایُغنِی عنك ھذا یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مااَغنی شیئًا اس نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ تَغَنَّی تَغَنِّیًا مالدار ہونا۔ تَغانَی مالدار ہونا۔ ــ القومُ ایک دوسرے سے بے نیاز ہونا۔ اِغتَنَی امیر ہونا امیر ہوجانا۔ اِستَغنَی امیر ہونا یا ہوجانا۔ اِستَغنَی اللہَ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ وہ اسے مالدار کردے۔ ــــ عنہ بہ اکتفا کرنا۔ الغِنَی (مص) اکتفاء کفایت، دولت مندی کہاجاتا ہے: مالہٗ عنہ غِنًی اس کے بغیر اس کو چارہ نہیں۔ لاغِنَی عنہ یہ ناگزیر ہے۔ ضروری ہے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ الغَناء: اکتفاء۔ دولت مندی، کفایت الغِنیۃ والغُنیۃ و الغُنیان کفایت۔ دولت، کہاجاتا ہے۔ مالہٗ عنہ غُنیۃٌ و غُنیانٌ اس کے لئے اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لاغُنیۃَ و غُنیانَ عنہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ الغَنِیّ جمع اَغنیاء دولتمند، مالدار، مکفی کہاجاتا ہے۔ ھو غَنِیٌّ عنہ وہ اس سے مستغنی ہے۔ الغانِی (فا) دولتمند، مالدار رجُلٌ غانٍ عن کذا اس سے مستغنی آدمی الغانِیۃ جمع غانِیات و غَوانٍ غانی کا مونث۔ حسن و جمال کی وجہ سے زیب و زینت سے بے نیاز عورت، مالہٗ عنہ مَغنًی اس کیلئے اس کے بغیر چارہ نہیں۔

۲۔ غَنِیَ ـ غِنًی الرجُلُ شادی کرنا۔ ــ ت المرأۃُ: عورت کا خوبصورت ہونے کی وجہ سے بناؤ سنگھار سے بے نیاز ہونا۔ تَغَنَّی تَغنِّیاتُ المرأۃ عورت کا شادی شدہ ہونا۔ الغانِیۃ جمع غانیات و غَوانٍ: شادی شدہ عورت۔

۳۔ غَنِیَ ـ غِنًی و مَغنًی بالمکان میں ٹھہرنا، اقامت کرنا، صفت غانٍ کہاجاتا ہے غَنُوا بدیارھم ثُمَّ فَنُوا وہ اپنے گھروں میں ٹھہرے پھر فنا ہوگئے۔ فلانٌ زندہ رہنا۔ المَغنَی جمع مَغانٍ منزل رہنے کی

جگہ۔ کہا جاتا ہے: خرجت مبانیھم و خلت مغانیھم ان کی عمارتیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور ان کے گھر خالی تھے۔

۴۔ غنی تغنیًّا گانا۔ —— الشِعْرَ و بالشعر گانا، شعر ترنم سے پڑھنا یا گانا۔ —— بالمرأة عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ —— الشاعرُ بفلان شاعر کا کسی کی مدح کرنا یا ہجو کرنا۔

تغنی تغنیًا بالمراة و بالشعر و بفلان عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ شعر ترنم سے پڑھنا، کسی کی مدح کرنا، کسی کی ہجو کرنا۔ الغِناء من الصوت گیت، سر، راگ۔ الأُغنیّة و الإِغنیّة و الأُغْنِیّة و الإِغْنِیّة ج اغانی و اغانٍ گیت، سر، راگ۔ المُغَنَّاة غنائیة (Opera)

۵۔ اغنی اِغناءً عنه کذا کو سے دور کرنا، ہٹانا، علیحدہ کرنا۔

☾ غَنِیَ - غِنًی و غنًی و غناءً جی سے آزاد ہونا۔ امیر ہونا، دولتمند ہونا، مالدار ہونا۔ غَنِیَ عن کی ضرورت نہ ہونا، کو چھوڑ سکنا، کے بغیر کام چلا سکنا، کے بغیر کر سکنا، کی ضرورت نہ ہونا۔ غنی ه / ب کچھ گانا۔ —— ه کو کچھ گا کر سنانا، —— ه کو گنگنانا۔ —— ب کی مدح کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا، اغنی کو احتیاج سے آزاد کرنا، کو امیر بنانا، کو مالدار بنانا۔ —— ه / عن کے لئے کافی ہونا، کیلئے کار آمد ہونا، ممد ہونا، کو فائدہ دینا، مدد دینا، کام دینا۔ —— عن کیلئے کافی ہونا، کو قانع کرنا، مطمئن کرنا، راضی کرنا، کے لئے بدل ہونا، قائمقام ہونا، پاسنگ ہونا، —— ه عن کیلئے کو غیر ضروری یا زائد از ضرورت بنانا —— عن کی پوری کرنا، کا متبادل یا قائم ہونا۔ —— ه عن کو سے نجات دلانا، سے بچاؤ دینا، سے نجات دلانا۔ —— عن کو سے بچانا، کی سے حفاظت کرنا، کی کے خلاف مدد کرنا۔ ما اغنی (عنه شیئًا) کے لئے کار آمد نہ ہونا، مفید نہ ہونا، فائدہ مند نہ ہونا۔ لا یُغنی فتیلًا عنہ کیلئے بالکل بے کار ہے۔ یہ کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ یہ ایک دمڑی کی بھی نہیں۔ تغنی ب کو گانا، گنگنانا۔ —— ب کی مدح کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا، اِعتنی ب کے ذریعہ امیر ہو جانا، مالدار ہو جانا۔ استغنی مالدار ہو جانا، دولت مند ہو جانا۔ —— عن کا ضرورت مند نہ ہونا، کے بغیر کام چلا سکنا، کو چھوڑ سکنا، کے بغیر کر سکنا، کا حاجتمند نہ ہونا۔ —— ب کے ساتھ کرنا، اہتمام کرنا، مطمئن ہونا۔ لا یُستغنی عنه ناگزیر، اٹل، واجبی، لابدی۔

غِنًی دولت، مرفہ الحال، تونگری، دولت کی بہتات۔ مال و متاع سیم و زر، تموّل۔ لا غنًی عنه ل کیلئے ناگزیر۔ ماله عنه غِنًی اس کو غیر ضروری سمجھ کر ترک نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے بغیر کام نہیں چلا سکتا۔ هو فی غِنًی عنه اس کے بغیر کام چلا سکتا ہے، اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کان فی غنی عن سے دست بردار ہونا، کو چھوڑ دینا، سے ہاتھ اٹھانا، کو غیر ضروری سمجھ کر ترک کرنا، کی کوئی ضرورت نہ ہونا، کو کرنے کی ضرورت نہ ہونا۔ غُنْیَة: ماله عنه غُنیة بمعنی ماله عنه غِنًی غَنِیّ ج اغنیاء سیے زرخیز دولتمند، مالدار، خوشحال عنیُّ الحرب جنگ سے ناجائز نفع حاصل کرنے والا جنگی نفع اندوز۔ غنیّ عن البیان بدیہی، صاف ظاہر، خود تشریحی اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ (أن) غَناء دولت۔ مرفہ الحالی، تونگری، دولت کی بہتات، مال و متاع، سیم و زر، تموّل۔ —— عن کیلئے افادہ۔ لا غناء فیه بے کار مصرف، ناکافی، بے فائدہ له غناء عنه و هو فی غناء عنه اس کے بغیر کام چلا سکتا ہے، اُسے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ غِناء گانا، گیت، غِنائی گانے کا، الحانی۔ حَفْلة غِنائیة نغمہ و سرود کا جلسہ، محفل سرود، سرود منڈی۔ اُغنیة ج اغنیات و اغانٍ گیت، شیریں نغمہ، دھن۔ غانیة خوبصورت لڑکی یا عورت، حسینہ ج غانیات و غوانٍ۔ مُغَنٍّ گلوکار گانے والا۔ مُغَنِّیة گلوکارہ، گانے والی۔

غهب: غَهِبَ - غَهَبًا و اغهب عنه سے غافل ہونا، کو بھول جانا۔ الغَهَب مصدر کہا جاتا ہے اصاب الصید غَهَبًا اس کے ہاتھ شکار بلا ارادہ آ گیا۔ فعَلَه غهبًا وہ کام اس سے قصد کئے بغیر ہو گیا۔ الغَیْهَب ج غیاهب غافل، کند ذھن اور کمزور آدمی۔

۲۔ اِغتهب اندھیرے میں چلنا۔ الغَیْهَب ج غیاهب تاریکی، بہت سیاہ گھوڑا، بہت تاریک رات، الغیهبة غیهب کا مونث الغَیْهَبان تاریکی۔

۳۔ الغُیْهُبان ہپیٹ۔ الغَیْهَق لڑائی کا شور۔

غوث: غاثَ - غَوْثًا و أغاثَ إِغاثةً و مَغُوثةً و کی مدد کرنا، کہا جاتا ہے۔ اغاثنا اللّٰهُ بالمطر اللہ تعالیٰ نے بارش کر کے ہماری سختی دور کر دی۔ غَوَّثَ الرَجُلُ مدد کیلئے چلانا۔ اِستغاث الرجُل و به سے مدد چاہنا۔ الغَوْث مدد۔ خوراک وغیرہ کی مدد الغُواث و الغَواث مدد۔ الغِیاث و الغَویث خوراک وغیرہ کی مدد۔ المَغاوِث پانی۔ اس کا واحد نہیں آتا۔

☾ اِستغاث ه / ب علی سے کے خلاف مدد کرنے کی اپیل کرنا، سے کے خلاف مدد چاہنا، مدد کے لئے پکارنا۔ غَوْث کیلئے پکار، مدد غِیاث إغاثة: مدد۔ وکالة إغاثة اللاجئین (التابعة للامم المتحدة) اقوام متحدہ کی ریلیف اور ورکس کی ایجنسی (UNRWA) اِستغاثة کی اپیل، مدد کے لئے پکار، مُغیث مدد کرنے والا۔ مددگار۔

غوج: غاج - غَوْجًا الغصن شاخ کا جھکنا، مڑنا اور دہرا ہونا۔ تغوّج الغصن شاخ کا مڑنا۔ —— الرجُل فی مشیته چال میں لچکنا۔

غور: غارَ - غَوْرًا ہستی کی طرف آنا۔ —— الماء پانی کا زمین میں جذب ہونا۔ صفت غائر —— غَوْرًا و غُؤُورًا ت عینه آنکھ کا دھنس جانا۔ غَوْرًا و غُؤُورًا و غِیارًا فی الامر کسی معاملہ کو گہری نظر سے دیکھنا۔ —— فی الشیء میں داخل ہو جانا۔ —— غِیارًا و غُؤُورًا ت الشمسُ سورج کا غروب ہونا۔ غور پستی کی طرف آنا۔ —— الماء پانی کا زمین میں جذب ہونا۔ —— ت الشمسُ او النجوم: سورج یا ستاروں کا غروب ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ غَوَّرَ النهارُ: سورج کا ڈھل جانا۔ اغار اِغارًا پستی کی طرف آنا، زمین میں جذب ہو جانا۔ تغوّر پستی کی طرف آنا۔ ظاهر العین آنکھ کا دھنس جانا۔ اِستغار الرجلُ ت زمین میں اترنے کا ارادہ کرنا۔ الغار جمع اَغوار وغیرہ کھوہ، غار۔ الغاران (ع ا): خانہ چشم کی ہڈیاں، اوپر نیچے کے تالو۔ الغائرة غائر کا مؤنث الغَوْر (مصدر) پست زمین۔ زمین میں جذب ہونے والا پانی۔ کھوہ، غار، گڑھا۔ —— فلانٌ بعیدُ الغور فلاں گہری نظر رکھنے والا ہے۔ عرفتُ غور المسألة میں نے مسئلہ کی حقیقت معلوم کر لی۔ ماءٌ غَوْرٌ زمین میں جذب ہونے والا پانی۔ الغَوْری: ہر چیز کی گہرائی۔ المَغار و المُغار و المَغارة و المُغارة ج مَغاوِر و مغارات کھوہ، غار، کہف۔

۳۔ غارَ - غَوْرًا الشیءَ او القوم کو تلاش کرنا کو طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے: غُرتُ فی غیر مُغار: تم نے ایسی جگہ تلاش کیا جہاں وہ نہیں ہے غوّر القوم کو شکست دینا۔ غاور مُغاورةً العدوَّ دشمن پر حملہ کرنا، لوٹ ڈالنا۔ القوم ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اَغارَ اِغارةً تیز چلنا۔ —— إغارةً و غارةً و مَغارًا الفرسُ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ —— علیهم پر حملہ کرنا۔ —— بهم و الیهم کی مدد کیلئے آنا۔ تغاور القوم ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اِستغار علیهم پر حملہ کرنا۔ الغار گرد و غبار، بڑا لشکر۔ الغارة (مص)

جمع غـارات: لوٹ مار، غارت گری۔ اغارہ کا اسم۔
تیز غارت ڈالنے کیلئے گھوڑے کہا جاتا ہے۔ شَنَّ الغارۃ
علیھم: غارت گری کیلئے گھوڑوں کو ہرطرف سے چڑھا
لانا۔ الغارَۃُ الجَوِیّۃ: ہوائی حملہ۔ المَغار و المَغارۃ
جمع مَغاوِر و مَغارات: حملہ۔ المُغار: حملہ کی جگہ۔
ــــ و المُـغـارَۃ ج مَغاوِر و مَغارات: حملہ۔ ـــ
المِـغْوار والمغاوِر من الرجال: چھاپہ مار، فرسٌ
مِغوار: تیز رفتار گھوڑا۔
۳۔ غَـار ـُ غَوْرًا الرجُلُ: دوپہر کو سوجانا۔ النھارُ: دن
کا سخت گرم ہونا۔ غَوَّرَ الرجُلُ: دوپہر میں چلنا، اترنا
یا سونا الـغَائِرۃ: دوپہر، دوپہر کو سونا۔ الغَوْرَۃ دوپہر کا
سونا۔ سورج۔
۴۔ غَـار ــُ غِیارًا لھم اللّٰہُ و غارَھُمْ: اللہ تعالیٰ کا
لوگوں کی رزق اور خیر سے مدد کرنا۔ اِغْتَارَ اِغْتِیارًا:
نفع اندوز ہونا۔ غلہ حاصل کرنا۔ اِسْتَغْوَرَ اِسْتِغوارًا
ۂ: سے غلہ مانگنا۔ الغِوَر: خون بہا۔
۵۔ اَغَـارَ اِغَـارَۃً الحبلَ: رسی کو مضبوط بٹنا۔ اِسْتَغَارَ
الرجُلُ: موٹا ہونا۔ ـ الجرحُ: زخم کا سوجنا۔ الغارَۃ:
مضبوط جوڑوں والے گھوڑے۔ کہا جاتا ہے۔ حبلٌ
شدید الغارۃ: مضبوط بٹی ہوئی رسی۔
۶۔ الـغار: انگور کے پتے، زنخدان، غیرت۔ ــــ واحد
غارَۃ (ن): ایک قسم کا درخت لارل پودہ (Laurel)
☺ غَـارَ ـُ غَوْرًا فی: میں گھس جانا، اندر تک چلے جانا۔
غارَ ـُ غَوْرًا: (آنکھوں وغیرہ کا) کا اندر دھنس جانا۔
(پانی کا) رسنا، خارج ہونا، نکلنا، (چشمے کا) خشک
ہونا۔ غَوَّرَ بمعنی غار ـُ غوراً۔ اَغارَ: زمین میں
سفر کرنا، ــــ علی: پر غارت گری کی غرض سے یلغار
کرنا۔ دھاوا بولنا، یورش کرنا، ہلہ بولنا، پر چھاپہ مارنا، پر
چڑھائی کرنا، حملہ کرنا، لشکر کشی کرنا، پر ٹوٹ پڑنا، کے
خلاف جارحیت کا ارتکاب کرنا، غـور جمع اغـوار:
پیندا، تلا، تہہ، زمین کا نشیب، زمین کا جھکاؤ، کھڈ،
گڑھا۔ گہرائی (مجازاً بھی)۔ بـعـیدُ الـغـور: گہرا،
عمیق، اتھاہ، ناقابل فہم، غار جمع اغوار و غیران:
کھوہ، گپھا، غار، کہف۔ غـارۃ جمع غـارات: غارت
گری، چھاپہ، چڑھائی، یلغار، حملہ، تاخت، یورش،
دھاوا۔ ــــ علی: پر حملہ، ـــ: اونٹوں کی ایک رفتار،
چال، غارۃ جَوِّیَۃ: ہوائی حملہ۔ غارات متواصلۃ
اومتوالیۃ: موجوں کی صورت میں حملے۔ شَنَّ غارۃ
علی: پر حملہ کرنا، پر حملہ شروع کرنا۔ مَغار: کھوہ، غار،
گپھا، کہف، مَغارۃ جمع مَغارات، مُغاوِر و مغایر
کھوہ، گپھا، کہف۔ غار۔ مِغوار جمع مَغاوِیر: تیز، تیز
رفتار، سبک رو گھوڑا، حملہ آور، جارح، بہادر، دلیر، جی
دار، جری جمع مغاویر: کمانڈوز (Commandos)
دہشت طاری کرنے والے دستے، اِغارۃ جمع اغارات
علی: پر حملہ۔ غـائِر: نشیب میں واقع، نشیبی، آنکھوں
کا گڑھا، مُـغِـیر: حملہ آور، جارح، جارحیت کرنے
والا۔

غوز: غَـازَ ـُ غَوْزًاہُ: کا قصد کرنا الغاز جمع غازات
(ل): گیس، پٹرول، تیل gas, patroleum, oil۔
الـغازات السامۃ: زہریلی گیسیں غـازی:
گیس کا، گیس جیسا، میـاہ غـازیۃ: کاربونیٹڈ واٹر،
صحت بخش پانی، سوڈا واٹر، قدرتی چشموں کا پانی جس کا
پینا مفید ہوتا ہے۔ mineral water۔ غـازوزۃ:
سوڈا واٹر۔

غوص: ۱۔ غَـاصَ ـُ غَـوْصًـا وغیاصًا غِیاصَۃً و
مَغَاصًا فی الماء: پانی میں غوطہ لگانا۔ پانی میں اترنا۔
صفت غـائِص جمع غـوّاص و غـاصَۃ ــــ علی
المعانی: معانی کی تہہ کو پہنچنا غَوَّصَ ہٗ فی الماء: کو
پانی میں غوطہ دینا۔ کو پانی میں اتارنا۔
الـغَـوَّاص: بہت غوطے لگانے والا۔ موتی وغیرہ نکالنے کے
لئے سمندر میں غوطہ لگانے والا (ح): پانی میں غوطہ
لگانے والا پرندہ۔ الـغَـوَّاصَۃ غـوّاص کا مونث (ا
ع): آبدوز کشتی، میرین کشتی الـغِـیَـاصَۃ: غوطہ خور
کا پیشہ، غوطہ خوری (پیشہ) الـمَـغَـاص (مص) جمع
مَغاوِص: غوطہ لگانے کی جگہ۔
۲۔ غَـاصَ ـُ غَوْصًا و غیاصًا و غِیاصَۃً و مَغاصًا علی
الشی: پر حملہ کرنا۔
۳۔ المَغَاص جمع مَغاوِص: پنڈلی کا اوپر کا حصہ۔
☺ غَاصَ ـُ غَوْصاً و مَغَاصًا و غِیاصًا و غِیاصَۃ فی
: میں غوطہ مارنا، غوطہ لگانا، تہ آب ہونا، میں سرسے پاؤں
تک بھیگا ہوا ہونا۔ ــ علی: کے لئے غوطہ لگانا۔ ــ:
موتی نکالنے کا کام کرنا۔ غَـوَّصَ ہٗ فـی: کو میں غوطہ
دینا، کو میں زور سے پھینکنا یا گھسیڑنا، دھکیلنا، تہہ آب
کرنا، سرسے پیر تک بھگونا۔ غـوِیص: گہرا، غَوَّاص
جمع غـوَّاصُون: غوطہ زن، غوطہ خور، موتی نکالنے کے
لئے غوطہ زنی کرنے والا۔ غَوَّاصَۃ جمع غوَّاصات:
آب دوز، مـغـاص الـلـؤلـؤ: موتیوں کے لئے غوطہ
خوری، غوطہ لگا کر موتی نکالنا۔

غوط: غَـاطَ ـُ غَوْطًا الحفرۃ: گڑھا کھودنا۔ ـ فیہ:
میں داخل ہونا، میں دھنسنا کہا جاتا ہے۔ ھـذا رمـل
تـغـوط فیـہ الاقـدام: اس ریت میں پاؤں دھنس
جاتے ہیں۔ ـ فـی الماء: پانی میں غوطہ لگانا۔ غَـوَّطَ
البئرَ: کنویں کو گہرا کھودنا۔ تَغَوَّطَ: پاخانہ کرنا، رفع
حاجت کرنا۔ تَـغَـوَّطَ و بَـالَ: اس نے پیشاب
پاخانہ کیا۔ تَغَاوَطا فی الماء: ایک دوسرے کو غوطہ
دینا الغاط جمع غُوط و اَغْواط و غِیاط و غیطان:
پست زمین۔ الغائط (فا): پست زمین، رفع حاجت
کی جگہ، پاخانہ۔ الـغُـوْط والـغَـوْطَـۃ جمع غُوط و
اَغْوَاط و غِیَاط و غِیطان: پست زمین۔ الغُوطَۃ:
بہت پانی اور درختوں والی جگہ۔ بئـر غُـوَیْطۃ: گہرا
کنواں۔
۲۔ غَوَّطَ الطعَامَ: کھانے کے بڑے بڑے لقمے نگلنا۔
۳۔ اِنْغَاطَ العودُ: لکڑی کا مڑنا۔
۴۔ الغَاط: جماعت، گروہ۔
☺ غَوَّط ہٗ: (کنواں) گہرا کرنا، گہرا کھودنا۔ تَغَوَّطَ:
رفع حاجت کرنا۔ غَـوْط جمع غُـوط و اَغْـوَاط و
غِـیَـاط و غِیْطَـان: خلا، گڑھا، وادی، نشیب، کھڈ۔
الـغُـوطَۃ: دمشق کے جانب جنوب ایک سرسبز و زرخیز
مقام۔ غَوِیط: گہرا۔ غائط: پاخانہ غُوطی: قوطی
(Gothic)

غـوغ: الغَاغ (ن): پودینہ واحد الغَاغَۃ: بہت سے گھلے
ملے لوگ۔ الـغَـوغَـاء: وہ ٹڈی جس کے پر نکل آئے
ہوں یا اڑنے کیلئے تیار ہو۔ بہت سے مختلف لوگ،
کمینے لوگ شرپسند لوگ۔ شور و غل (عوام کی زبان
میں)
☺ غَاغَۃ: بے ترتیب مجمع، رذیلوں کی ٹولی، نیچ ذات کے
لوگ، گنوار۔ آواز، شور، ہنگامہ، شور و غل، غل غپاڑہ، شور
و غوغا، ہنگامہ، غوغا بمعنی غاغۃ

غـوف: الـغُـوافۃ (ن): ایک قسم کا درخت، اس درخت کا
پھل۔

غول: ۱۔ غَالَ ـُ غَوْلًاہٗ: کو ہلاک کر دینا، اچانک بے خبری
میں پکڑ لینا۔ تـہُ الـخـمـرُ: شراب کا پینے والے کو
مدہوش کرنا۔ تَغَوَّلَتِ الارضُ بفلان: زمین کا کسی
کو ہلاک کرنا، بے راہ کرنا۔ ـــ ت الغیلانُ القومَ:
چھلاوہ کا لوگوں کو منزل سے بھٹکا دینا۔ اِغْتَالَ اِغْتِیالاً:
کو ہلاک کرنا، اچانک پکڑ لینا۔ کو قتل کر دینا، مار ڈالنا۔
الـغَـائِلۃ جمع غَـوَائِل: غـائِل کا مونث۔ مصیبت،
ہلاکت، شر، فساد۔ الـغُـول (مص): دردسر، بدہوشی،
ریگستان کی دوری، مشقت۔ الـغُـول جمع اَغْـوال
و غِیلان: مصیبت۔ ہلاکت۔ چھلاوہ، غول بیابانی/
ہر وہ چیز جس سے عقل زائل ہو۔ موت۔ الغضب غول
الحکم: غصہ سے انصاف نہیں ہوتا۔ (ن) سانپ۔
الغِیْلَۃ اغتیال کا اسم ہے۔ المِغْوَل: ہلاک کرنے کا

آلہ۔ لمبی پیکان۔ لاٹھی جس کے اندر پتلی سی تلوار ہوتی ہے۔ گپتی۔ المَغالۃ: ہلاکت۔

۲۔ غَاوَلَ مُغَاوَلَۃً: جلدی چلنا، تغاوَلا: ایکدوسرے سے سبقت کرنا۔

۳۔ تَغَوَّلَ تِ المرأۃ: متلون ہونا۔ ـــ الامرُ: معاملہ کا ابتر ہونا۔ ـــ الغُول جمع اغوال: گونا گوں شکلیں اختیار کرنے والا جادوگر اور جن۔

۴۔ الغَال جمع غالات: قفل، تالا (فارسی) الغَوْل: بہت مٹی، پست زمین۔ الاَغْوَل من العیش: آسودہ زندگی

ⓒ غَالَ ـُ غَوْلًا ہ / ہ: کو بے خبری میں لے جانا، چھیننا، پکڑنا، ہتھیانا، زبردستی چھیننا۔ ـ ہ: کو مار ڈالنا، ہلاک کردینا۔ اغتال بمعنی غَالَ نیز اِغْتَال ہ: کو دھوکے سے قتل کرنا، قتل کرنا۔ غَال جمع غَالات: تالا، قفل۔ غُوْل: (عموماً مونث) جمع اَغْوال و غیلان: غول بیابانی، ریگستانی بھوت جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ بھوت پریت، آسیب، بدروح، جن، بھتنا، پری، جن، آدم خورد (جن)، ہم جنس خور (حیوان) مصیبت، آفت، تباہی، غِیْلَۃ: دھوکے سے قتل قتلہُ غِیلَۃً: کو دھوکے سے قتل کردینا۔ اِغْتِیال جمع اغتیالات: قتل، قتل کرنا، دھوکے سے کیا جانے والا قتل، غَائلۃ جمع غَوَائل: مصیبت، آفت، تباہی، بربادی، خطرہ۔

غوی: ۱۔ غَوٰی ـِ غَیًّا و غَوِیَ یَغْوَی غَوَایۃً: گمراہ ہونا، ناکام و محروم ہونا۔ ـــ الرجُلَ: کو گمراہ کرنا۔ غَوَّی و اَغْوَی الرجُلَ: کو گمراہ کرنا، تغاوَی: گمراہ اور جاہل بننا۔ اِنْغَوَی الرجُلُ: گرنا، جھکنا، اِسْتَغْوَی الرجُلَ: کو گمراہ کرنا، کی گمراہی کا طالب ہونا، کہاجاتا ہے۔ استغواہ بالامانی الکاذبۃ: کو جھوٹی امیدوں سے گمراہ کیا۔ الغاوِی جمع غاوُون و غُواۃ فا ـــ (عند العامۃ:) جو بنا ٹھنا رہنا پسند کرے۔ ـــ والغوِی والغَیّان: گمراہ، خواہش پرست کہاجاتا ہے۔ الغاوِیۃ: غاوِی کا مونث کہاجاتا ہے بِتُّ غَوِیًّا و مُغْوِیًّا و مُغْوِیًا: میں نے رات اکیلے گزاری، الغوِی: گمراہ، خواہش پرست کہاجاتا ہے۔ بتُّ غوِیًّا: میں نے رات اکیلے گزاری الغَیَّۃ والغِیَّۃ: گمراہی، کہاجاتا ہے۔ انہ ولدُ غَیَّۃٍ: وہ حرام زادہ ہے، ولد الزنا ہے۔ المَغْواۃ جمع مَغَاوٍ والمُغَوّاۃ جمع مُغَوَّیات: گمراہی کی جگہ، کہاجاتا ہے۔ حَفَرَ لأخیہ مُغَوّاۃً: اس نے اپنے بھائی کو مشکل میں ڈال دیا۔

۲۔ غَوِیَ ـَ غَیًّا: ہلاک ہونا۔ ـ غَوِیَ الفصیلُ: اونٹ کے بچہ کو بدہضمی ہونا اور لاغری سے قریب بہ ہلاک ہونا صفت: غَوٍ۔ غَوِیَ یَغْوَی غَوَایۃً: ہلاک ہونا۔ ـ غَوِیٌّ الفصیل بمعنی الفصیل صفت: غَوٍ ـ تَغَاوَی القومُ علیہ: کے خلاف اس کو قتل کرنے کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس کی اصل غَوَایۃ یا غَیّ: ہے الاُغْوِیَّۃ جمع اَغَاوِیّ: مصیبت، ہلاکت، (کہاجاتا ہے: وقع الناسُ فی اُغْوِیَّۃٍ: لوگ ہلاکت میں پڑ گئے۔) درندوں کے شکار کے لئے گڑھا۔

۳۔ رَاْسٌ غاوٍ: چھوٹا سر یا بہت زیادہ ادھر ادھر رخ پھیرنے والا سر۔ الغاوِیۃ: پانی سے بھری ہوئی مشک

ⓒ غَوَی ـ غَیًّا و غَوَایۃً: سیدھے راستہ سے بھٹک جانا، گمراہ ہوجانا، (اپنے کاموں میں) غلطی کرنا۔ ـــ ہ: کو گمراہ کرنا۔ ـــ ہ ب: کو پر بہکانا، کو کچھ کرنے پر ورغلانا، کو کی ترغیب دینا، کو پر اکسانا، ابھارنا، کو کی رغبت دلانا، کو کا لالچ دینا، کو پر للچانا، پھسلانا، کو لالچ دے کر کسی کام میں پھانسنا غَوِیَ ـَ: للچانا، حرص کرنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا، پسند کرنا، غَوَّی ہ: کو گمراہ کرنا، ترغیب دینا، رغبت دلانا، ورغلانا، لالچ دینا، اَغْوَی بمعنی غَوَّی اِستَغْوَی ہ: کو گمراہ کرنا۔ ـــ ہ ب: کوئی طمع دینا، کو سے ورغلانا، بہکانا، کو سے للچانا ورغلانا، پھسلانا، ترغیب دینا، کو سے لبھانا، کو سے چارہ دینا، کو سے دانہ ڈالنا، کو سے جال میں پھانسنا، کو سے دام میں گرفتار کرنا، کو سے دھوکا دینا، کو سے جیتنا، کو سے آمادہ کرلینا، کو سے اپنے اوپر مہربان کرلینا۔ غَیّ: مداخلت، خلاف ورزی، حد سے تجاوز، جرم، غلطی گناہ، ترغیب، بہکاوا، تحریص، لالچ، حرص کا پھندا، لالچ، لبھاؤ، غَیَّۃ و غِیَّۃ جمع غَیّات: غلطی، گناہ، پسند، ذوق غَوَایۃ: غلطی، گناہ، ترغیب تحریص، بہکاوا، لبھاؤ، لالچ۔ اُغْوِیۃ جمع اَغاوِی: دھوکے کی جگہ، جنگلی جانوروں کو پکڑنے کا گڑھا۔ پھندا، دام، جال، جانور پکڑنے کا پنجرا، بند گڑھا۔ اِغْواء: بہکاوا، ترغیب، اغوا تحریض، لالچ، حرص کا پھندا۔ غاوٍ: ترغیب دینے والا تحریص دینے والا، لالچ دینے والا، بہکانے والا جمع غُواۃ: شائق، شوقین، رسیا، عاشق، فنون لطیفہ کا شائق، فن میں شدید شوق رکھنے والا اناڑی، دل بہلاوے کے لئے کام کرنے والا مُغْوَاۃ جمع مُغْوَیات: جنگلی جانوروں کو پکڑنے کا گڑھا، دھوکے کی جگہ، دام، جال۔

ⓒ غَنِیَ ہ (جھنڈا) اونچا کرنا۔ غایۃ جمع غایات انتہائی مرکا درجہ، انتہا، مقصد، ارادہ، غرض، (سفر کی) منزل ـ لغایۃ: کی حد تک۔ کان غایۃ فی الجمال: غیر معمولی حسن ہونا۔ الغایۃ تبرر الواسطۃ: مقصد رائع کا جواز فراہم کرتا ہے۔ الظلق لغایۃ: منزل مراد کیلئے روانہ ہونا۔ غـائیۃ: کائنات میں ایک علت العمل کے وجود کا عقیدہ

غیب: غَابَ ـِ غَیْبًا و غَیْبَۃً و غِیابًا و غُیُوبًا و مَغِیبًا عنہُ: سے دور ہونا، جدا ہونا۔ ـــ غِیابًا و غَیْبُوبَۃً: غیر حاضر ہونا۔ ـــ ت الشمسُ: سورج کا غروب ہونا، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونا۔ الشئُ عَنْ فلان: سے پوشیدہ ہونا۔ ـ عن بلادہ: سے سفر کرنا۔ ـ غَیْبًا و غَیابًا و غِیبۃً و غِیابَۃً و غُیُوبۃً الشئُ فی الشئ: ایک چیز کا دوسری چیز میں پوشیدہ اور چھپا ہوا ہونا۔ ـــ غِیْبَۃً و اِغْتَابَ اِغْتِیابًا ہُ: کی عیب گیری کرنا، غیبت کرنا۔ غَیَّبَ ہُ: کو دور کرنا۔ کہاجاتا ہے۔ غَیَّبَہُ غَیابُہُ: وہ اپنی قبر میں مدفون ہوا۔ غایَبَ مُغَایَبَۃً ہُ: سے غائبانہ کہنا۔ کہاجاتا ہے۔ انا مَعَکُمْ لا اُغَایِبُکُمْ: میں تم سے مخاطب ہوں۔ اَغَابَ القومُ: غروب آفتاب کے وقت آنا۔ ـ ت المرأۃُ: عورت کے خاوند کا غائب اور غیر حاضر ہونا صفت مُغِیب و مُغِیبۃ و مُغیب تَغَیَّبَ عنہ: سے غائب ہونا۔ تَغَایَبَ القومُ: غائب ہونا۔ الغائب جمع غَیَب و غُیَّب و غُیّاب و غائبون: فلا غائبُک: جو آپ سے غائب ہو۔ الغابۃ جمع غابٌ و غابات: پست زمین۔ بانس کی جھاڑی۔ جنگل۔ لمبا نیزہ لوگوں کی جماعت۔ غابۃ البحر: مُتَحَجّر سمندری کیڑوں کے جمع کرنے کی جگہ۔ الغَیابُ (مص): قبر۔ غَیابُ الشجر: درختوں کی جڑیں۔ الغَیابۃ: قبر، پست زمین ـ من کل شئ: پردہ ہر چیز جو آپ کو چھپائے۔ ـ من الوادی او الجبّ: وادی یا کنویں کی گہرائی۔ الغَیْب (مص): جمع غِیاب و غُیُوب: شک۔ غائب اور پوشیدہ چیز، راز، بھید۔ پست زمین کہاجاتا ہے۔ سمعت صوتاً من وراء الغیب: میں نے ایسی جگہ سے جو مجھے نظر نہیں آتی تھی آواز سنی۔ الغَیْبۃ: قبر، پست زمین الغِیْبۃ: عیب گیری، غیبت۔ الغَیّاب غائب کا اسم مبالغہ غَیّابُ الشجر: درخت کی جڑیں۔ الغَیُّوب: غائب کا اسم مبالغہ الغَیْبُوبۃ: غروب۔ کہاجاتا ہے۔ لقیتُہُ عند غَیْبُوبۃ الشمس: میں اسے غروب آفتاب کے وقت ملا۔

ⓒ غَابَ ـِ غَیْبًا و غَیْبَۃً و غِیابًا و غَیْبُوبَۃً و مَغِیبًا: غیر حاضر ہونا، یا رہنا، دور ہونا یا رہنا۔ ـ عن: سے غیر

حاضر ہونا، سے ہٹ جانا، چلے جانا، کو چھوڑ دینا، کی
نظروں سے اوجھل ہو جانا، سے غائب ہو جانا۔
فی: میں گم ہونا، میں نظر سے اوجھل ہو جانا، میں نکل
جانا۔ عن: سے چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ مغیبا:
(سورج ستاروں وغیرہ کا) غروب ہونا۔ ب
الشئ عن باله: معاملہ اس کی یادداشت سے نکل گیا،
وہ معاملہ کو بھول گیا۔ غاب عن صوابه: بیہوش ہو
جانا، غش کھا جانا۔ غاب عن الوجود: بیہوش ہو
جانا۔ لا تغیب عنه الشمس: یہ تاریکی کے پردہ
میں چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ غیّب ہ: کو لیجانا، دور کرنا، کو
غائب کرنا، کو نظروں سے اوجھل کر دینا۔ ہ عن:
کو سے چھپانا۔ ہ: کو سب کچھ بھلا دینا، کو ہر شے
سے غافل کر دینا۔ غیّبه عن الوجود: کو ذہن سے
نکال دینا۔ غیّبه الثری: زمین نے اُسے سے،
ڈھک دیا، دفن کر دیا۔ تغیّب عن: سے غیر حاضر
ہونا، حاضر نہ ہونا، دور ہونا، دور رہنا۔ وہاں نہ
ہونا۔ عن: (کام یا مدرسہ) سے بھاگ جانا۔
اغتاب ہ: پر تہمت لگانا کی غیبت کرنا۔ غیب: غیر
حاضری، غیر موجودگی چھپا ہوا، پوشیدہ، غیر مرئی، جمع غیاب
غیوب: وہ جو چھپا ہوا، پوشیدہ ہے اور نظر نہیں آتا۔ وہ
جو حواس سے پرے اور ماورائے عقل ہے۔ مافوق
الفطرت آسمانی یا خدائی۔ غیبا یا عن ظهر
الغیب: دل سے، حافظہ سے۔ علام الغیوب: اللہ
تعالیٰ جو نظر نہ آنے والی اور حواس اور عقل سے ماوراء
باتوں کو مکمل طور پر جانتا ہے۔ عالم الغیب: نظر نہ
آنے والی دنیا۔ بظهر الغیب: پیٹھ پیچھے، چپکے چپکے،
دھوکے سے۔ نظر بعین الغیب إلى: کو پہلے سے
بھانپ لینا، کی پیش بینی کرنا۔ سے پہلے سے واقف
ہونا۔ غیبی: مخفی، پوشیدہ، غیر مرئی۔ حکم غیابی:
یکطرفہ فیصلہ Judgement by default
غیابیا: غیر حاضری میں۔ مغیبات: بیہوش کرنے
والی دوائیں یا نشے کی چیزیں سن کرنے والی، مخدر
دوائیں۔ المغیبات: پوشیدہ، حواس اور عقل سے
ماوراء، خدائی۔ غیتو Ghetto شہر کا یہودی علاقہ
غیث: غاث - غیثا اللہ البلاد: (اللہ تعالیٰ کا) ملک
پر بارش برسانا۔ غیث الارض: زمین پر بارش ہونا۔
ایسی زمین مغیثة و مغیوثة کہلاتی ہے۔ غیّث
البعیر: اونٹ کا موٹا ہونا۔ غیث جمع غیوث
واغیاث: بارش، کبھی بادل کو بھی غیث کہتے ہیں۔
بارش کے پانی سے اگنے والی گھاس۔ کہا جاتا ہے۔
رعینا الغیث: ہم نے مویشیوں کو برسات سے اگے
ہوئے پودے چرائے کہا جاتا ہے غیث مغیث:
عام بارش۔ سحاب غیث: بہت بارش برسانے والا
بادل۔ بئر ذات غیث: بہت پانی والا کنواں۔
غاث - غیثا النور: نور کا روشن ہونا۔
غاث - غیثا ہ: کو بارش کا پانی دینا۔ ہ/ ہ: (اللہ
تعالیٰ کا) کسی شخص یا چیز پر بارش بھیجنا۔ غیث جمع غیوث
واغیاث: (بہت) بارش۔
غید - غیدا الغلام: لڑکے کا جھکی ہوئی گردن
والا ہونا، نرم کندھوں والا ہونا۔ صفت اغید مؤنث
صفت مونث غیداء جمع غید۔ تغاید فی مشیته:
نزاکت کی وجہ سے چلنے میں جھکنا۔ الغید (مص):
نزاکت۔ الاغید: نرم و نازک پھل۔ مکان اغید:
بہت نباتات والی جگہ۔ غادة جمع غادات: نازک
و نرم اندام عورت، ترو تازہ دوشیزہ۔ غیدان الشباب:
آغاز جوانی۔
غید غید: جلدی کرو، جلدی کرو۔
غیداق المطر: بارش بہت برسنا۔ الغیداق: سرسبز،
فیاض۔ الغیدق والغیدقان: نرم و نازک و ملائم
تغاید: عشوہ طرازی سے لیک کر چلنا۔ نزاکت،
نازک خوبصورتی، نرمی، ملائمت، (عورت کا) ادہ
غادات: نوجوان لڑکی، نوجوان خاتون۔ اغید:
نوجوان خاتون۔ م غیداء جمع غید: نوجوان
اور نازک۔
غار - غیرۃ و غیرًا و غارًا الرجل علی
امرأته من فلان وهی علیه من فلانة: آدمی
کا اپنی بیوی پر کسی اور مرد سے اور عورت کا اپنے خاوند
پر کسی اور عورت سے) غیرت کرنا۔ صفت غیران
و غیور و مغیار۔ صفت مؤنث غیور و غیری: جمع
غیاری و غیاری و غیر و مغاییر
الغیرة: اغار - اغارة ہ: کو غیرت پر ابھارنا، کی
غیرت کو برانگیختہ کرنا۔ غار الرجل امرأته: مرد کا دوسری
شادی کر کے پہلی بیوی کو غیرت دلانا۔ غیر علی
امرأته: عورت پر غیرت کرنا۔ تغایر الزوجان:
ایک دوسرے پر غیرت کرنا۔ الغیرة جمع غیر: غار کا
اسم۔ غیرت نخوت۔
غار - غیارا ہ: کو نفع دینا۔ کہا جاتا ہے غارهُ بخیر:
کو خیر کا نفع دینا۔ غارهم الله بمطر: اللہ تعالیٰ کا
لوگوں کو بارش سے سیراب کرنا۔ غیرا و غیرة:
کو خون بہا دینا۔ اغار - اغیارا الرجل: رسد مہیا
کرنا، غلہ مہیا کرنا۔ الغیرة جمع غیر: خون بہا، گندم کا
المغیر و المغیور: بارش سے سیراب شدہ جگہ۔
مکان مغیر و مغیور و ارض مغیرة و مغیورة:
بارش سے سیراب شدہ جگہ، زمین۔
غیّر الشیئ: کو بدل دینا، تبدیل کرنا۔ غایر غیارا
و مغایرة ہ: سے تبادلہ کرنا، کی مخالفت کرنا، سے بیچ
میں مقابلہ کرنا، کا غیر ہونا۔ تغیّر: بدل جانا تبدیل ہو
جانا۔ تغایرت الاشیاء: مختلف ہونا۔ غیر جمع
اغیار: غیر کا اسم۔ کہا جاتا ہے من یکفر باللہ
یلقی الغیر: جو اللہ تعالیٰ کا کفر کریگا۔ اس کی حالت
خراب ہو جائیگی۔ غیر: جھوٹ و باطل۔ غیر:
سوا۔ اغیار جاء غیرهم: ان کے سوا/
علاوہ اور لوگ آئے۔ جاء القوم غیر فلان: فلاں
کے سوا سب لوگ آئے۔ یہاں غیر منصوب ہے۔ اور
مستثنیٰ بھا ہے اور فلاں مضاف ہے۔ اور بمعنی لا ہو تو
حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ جیسے
اضطر غیر باغ ولا عاد: غیر باغ لا متجاوزًا
ہے الا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس صورت میں
اسم ہوتا ہے اور معنی اضافة کے ساتھ ہوتا ہے اور
اس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں تو لفظی طور پر اس سے
منقطع ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے لیس یا لا آتا ہے
اس معنی اضافة کے وقت رفع اور نصب جائز
ہے۔ آپ کہتے قبضت عشرة لیس غیرها
ولیس غیرها: میں نے دس سے زیادہ نہیں لئے
مضاف الیہ کے محذوف ہونے کی صورت میں رفع۔
ضم نصب اور فتح جائز ہے۔ اس صورت میں آپ کہتے
قبضت عشرة لیس غیرٌ و لیس غیرُ ولیس
غیرًا ولیس غیرَ یعنی مفهوم الا ہوتا ہے۔ کہا
جاتا ہے فعله غیر مرّة: اس نے وہ کام ایک سے
زائد مرتبہ کیا۔ غیر الدهر: حوادث زمانہ۔ غیریة:
غیریة: کے خلاف یعنی دو چیزوں میں سے ہر ایک کا
ایک دوسرے کے خلاف ہونا۔ ایثار، ایثار پیشگی، بے
غرضی (altruism)
الغیر دیاران: ایک قسم کا پودا۔
غار - غیرة من: سے حسد کرنا۔ علی: کے لئے
مقابلہ کرنا۔ کے لئے جوش یا سرگرمی کا مظاہرہ کرنا۔
علی من: کسی سے غیرت میں آکر حفاظت کرنا، کو سے
غیرت مندی کیساتھ بچائے رکھنا۔ ہ/ من:
کو تبدیل کرنا، بدلنا، ترمیم کرنا۔ غایرہ/ ہ: کے
مقابل ہونا۔ سے نمایاں فرق رکھنا۔ مختلف ہونا،
غیر مشابہ ہونا۔ ہ: کسی شخص یا چیز سے بالکل مختلف
ہونا۔ ہ: کو تبدیل کرنا (جیسے لباس تبدیل کرنا)۔
بین: کے مابین اولا بدلی کرنا۔ ہ: سے بول تول

کرنا۔ سے سودا کرنا، سے معاملہ کرنا، سے خریدتے
وقت تکرار کرنا، کے خلاف مقابلہ میں حصہ لینا، سے
مقابلہ کرنا۔ اغارۃ: کو غیرت دلانا۔ تغیّر: بدلنا،
تبدیل ہونا، مختلف ہونا۔ تغایر: مختلف ہونا، مختلف
العناصر ہونا۔ غیر: کے علاوہ، سے مختلف، نئے انداز
کا، نہیں، نہ غیر، بمعنی dis, in, un, non۔ غیر:
کے سوا، کے سوائے، ماسوا اس کے۔ الغیر: دوسرے
لوگ، ساتھی، پڑوسی، وغیرہ، وغیر ذلک: وغیرہ اور
دوسرے لوگ اور دوسری چیزیں۔ لاغیر اور لیس
غیر: یہی سب ہے۔ فقط، بس اتنا ہی۔ کچھ اور نہیں،
صرف۔ غیر ان: مگر یہ کہ، بہرحال، اس کے باوجود،
لیکن، مگر بہر صورت، بہر کیف۔ غیر واحد: ایک
سے زائد، کئی۔ غیر مرۃ: ایک سے زیادہ دفعہ، بسا
اوقات، کئی بار، اکثر بیشتر۔ من غیر: کے بغیر،
فی غیر (ما): کے بغیر۔ غیر تروّ: بلا سوچے، بلا
جھجک۔ فی غیر ماتہیب: بلا خوف۔ علی غیر
معرفۃ منہ۔ من غیر علم منہ: اس کے علم کے
بغیر، اس کے جانے بغیر، بے جانے بوجھے، نادانستہ
طور پر۔ غیری: بے غرض۔ غیریۃ: ایثار، بے نفسی،
دوسروں کی بہبود کا جذبہ۔ غیر الدھر: قسمت یا زمانہ
کے نشیب و فراز۔ غیرۃ: حسد، غیرت، سرگرمی، شوق،
جوش، ولولہ، چوکسی فکرمندی، تشویش، سنجیدہ تعلق۔
علی: کیلئے پریشانی، غیرت مندی، خودداری، احساس
عزت۔ غیور ج غُیُر: بہت حاسد، پرجوش، سرگرم،
متمنی، شوقین، مشتاق، خواہشمند، بے قرار، سنجیدگی سے
فکرمند، پریشان۔ غیار: تبادلہ، ادل بدل، اولا بدلا،
تبادلہ اشیاء، چیز کے بدلے چیز، بدل، قائم مقامی،
جانشینی عوض ج غیارات: زخم پر باندھنے کی پٹی، زخم
کی مرہم پٹی۔ قطع الغیار: زائد پرزے (Spare parts)
مغایر للاداب: نازیبا، فحش، ناشائستہ،
غیر اخلاقی۔ متغیّر: تغیر پذیر، تلون۔ تیار متغیر:
الٹی رو، بدلی رو، اے سی (بجلی) Alternating
crrent۔

غیض: غاض یغیض غیضًا و مغاضًا الماءُ: پانی کا
کم ہونا، نیچے اتر جانا۔ الثمنُ: قیمت کا گھٹنا۔ الماءَ
او الثمنَ: پانی یا قیمت کو کم کرنا۔ دمعۃً: آنسو
روکنا۔ غیّض و اغاض الماءَ او الثمنَ: پانی یا
قیمت کو کم کرنا۔ دمعۃً: آنسو روکنا۔ تغیّض وانغاض
الماءُ: پانی کا کم ہونا، نیچے چلا جانا، نیچے اتر جانا۔
الثمنُ: قیمت کا کم ہونا، گھٹ جانا۔ الغیض (مص)
اسقاط شدہ بچہ، کم، تھوڑا کہا جاتا ہے۔ ھذا غیضٌ
من فیضٍ: یہ بہت میں سے تھوڑا ہے۔ الغیضۃ ج
غیاض و اغیاض و غیضات: غاض سے اسم مرۃ:
پانی جمع ہونے کی جگہ میں درختوں کا جھنڈ، جھاڑی، غیض
بن۔ المغیض ج مغایض: جوہڑ، کہا جاتا ہے۔
ماءٌ مغیضٌ: پانی جس کا نکاس جوہڑ میں ہو۔
غاض ۔ غیضًا و مغاضًا: کم ہونا، گھٹنا، سمٹنا،
غاض لونُہ: اس کا رنگ سفید پڑ گیا، وہ پیلا زرد
ہو گیا۔ غیض: وقت سے پہلے پیدا ہونے والا رحم مادر
کا بچہ۔ غیضۃ ج غیضات و غیاض و اغیاض:
درختوں کا جھنڈ، جنگل۔

غیط: غاط ۔ غیطا فیہ: میں داخل ہونا۔ الغیط: باغ
المغایطۃ: خصومت، جھگڑا کہا جاتا ہے: بینھم
مغایطۃٌ: ان کے مابین جھگڑا ہے، اور تو تو میں میں
ہے۔
غیط ج غیطان: میدان (Field)

غیظ: غاظ ۔ غیظًا و غیّظ و غایظ و اغاظ ہٗ: کو
غصہ دلانا۔ کہا جاتا ہے: غایظ صاحبہ فی
العمل: اس نے کام میں اپنے ساتھی سے مقابلہ کیا اور
اس پر غالب آیا۔ تغیّظ: غصہ ہونا۔ ناراض ہونا۔
الحرُّ: گرمی کا تیز ہونا۔ اغتاظ: غصہ ہونا، ناراض
ہونا۔ الغیظ (مص): غصہ یا سخت غضب طیش تاؤ
فورنا راضگی۔ اغیاظ: غم، مشقت۔ المغیظ:
ناراض، بھڑکایا ہوا، طیش دلایا ہوا، غضبناک کیا ہوا۔
غصہ دلایا ہوا۔
غاظ ۔ غیظاہ و غیّظہ و اغاظہ: کو بھڑکانا،
طیش دلانا، غضبناک کرنا، غصہ دلانا، اشتعال دلانا،
مشتعل کرنا، خفا کرنا، پریشان کرنا، برانگیختہ کرنا، برہم
کرنا، آگ بگولہ کرنا، دق کرنا، ستانا۔ تغیّظ و انغاظ
و اغتاظ من: پر غضبناک ہونا، برہم ہونا، سے غصہ
ہونا۔

غیف: غاف ۔ غیفانات الشجرۃُ: درخت کا اپنی
شاخوں کے ساتھ دائیں بائیں جھکنا صفت
غیفاء۔ اغاف الغصنَ: شاخ کو جھکانا۔ غیّف و
تغیّف ت الشجرۃُ: درخت کا شاخوں کے ساتھ
دائیں بائیں جھکنا۔ الاغیف م غیفاء: نازک بدن۔
کہا جاتا ہے عیش اغیف: آسودہ زندگی۔ شجرۃ
غیفاء: جھکی ہوئی شاخوں والا درخت۔ الغیفان
والغیفان: متکبرانہ چال
غیّف: بھاگنا، بزدل ہونا۔ تغیّف عن الامر:
کام سے ہٹنا، باز رہنا۔
الغاف: غافۃ (ن) واحد: ایک بہت میٹھا پھل والا
درخت۔ الغیف: پرندوں کا جھنڈ۔ الغیاف: بہت
لمبی داڑھی والا۔

غیق: غیّق المالَ: کو بگاڑنا، خراب کرنا۔ فی رایہ:
میں غیر مستقل مزاج ہونا۔ الطائرُ: پرندہ کا اپنی جگہ
پر پھڑپھڑانا۔ بصرۃً: نگاہ کو پھیرنا۔ غیّقت
العینُ: آنکھ کا تاریک ہونا۔ غیاقِ (مبنی علی
الکسر): کوے کی آواز کی حکایت: کائیں کائیں اگر
اسے نکرہ بنایا جائے غیاقٍ کہا جائے گا۔ الغیقاق
(ح): کوا۔ عام لوگ القاق کہتے ہیں۔ الغاق و الغاقۃ
(ح): مرغابی۔

غیل: غال ۔ غیلاً و اغال اغالۃً ت المرأۃُ
ولدَھا: عورت کا حاملہ ہونے کی حالت میں بچہ کو دودھ
پلانا۔ صفت مغیلۃ و مغیل۔ اغیل اغیالاً ت المرأۃُ
ولدَھا: عورت کا حاملہ ہونے کی حالت میں بچہ کو دودھ
پلانا۔ الغنمُ: بکری کا سال میں دو دفعہ بچہ دینا۔
الغیل (مص) م غیلۃ ج اغیال: حاملہ عورت کا
دودھ۔ الغیلۃ: حمل کے وقت دودھ پلانا۔
غال ۔ غیالاً وغیالۃً و غؤولاہ: کو چرانا۔ الغائلۃ
ج غوائل: شر، پوشیدہ کینہ۔ الغوائل: مصائب۔
مصیبت۔ الغیلۃ: دھوکا، دھوکے سے مار ڈالنا کہا جاتا
قتلہ غیلۃً: کو دھوکہ دیکر کسی جگہ لیجا کر قتل کر
دیا۔ الغیّال: مبالغہ کا صیغہ۔ المغالۃ: شر، برائی۔
اغیل اغیالاً ت الشجرۃُ: درخت کا بڑا اور گنجان
ہونا۔ تغیّل القومُ: قوم کے مویشیوں کا زیادہ ہونا۔
۔ و استغیل ت الشجرۃُ: درخت کا گنجان شاخوں
والا ہونا۔ صفت مغیال۔ اغتال اغتیالاً الغلامُ: لڑکے
کا موٹا تازہ ہونا۔ الغیل م غیلۃ ج اغیال: موٹا
لڑکا۔ الغیل ج اغیال و غیول: بن۔ جنگل، بہت
گنجان شاخوں والا درخت، شیر کی جگہ۔ الغیّال: شیر
الاغیل: پرگوشت۔ المغیال: گھنا سایہ دار درخت
المغایلۃ ج غوائل: حوض کا شگاف۔ الغیل ج
اغیال: زمین پر بہنے والا پانی، بہتے پانی کے چشموں کی
وادی۔ دور کی چیز جو نزدیک نظر آئے۔ الغیل ج اغیال
و غیول: پانی والی وادی۔

غیم: غام ۔ غیمًا و غیّم و اغام اغامۃً و اغیم
اغیامًا و تغیّم ت السماءُ: آسمان کا ابرآلود ہونا۔
الغیم (مص) ج غیوم و غیام: بادل
غیوم: ابرآلود دن۔
غام ۔ غیمًا البعیرُ: اونٹ کا پیاسا ہونا صفت۔
غیمان م مونث غیمی ۔ غیم البعیرُ: اونٹ کا
پیاسا ہونا۔ صفت غیمان ج غیام۔ اغیم اغیامًا البعیرُ

اونٹ کا پیاسا ہونا۔ القومُ: لوگوں کا پیاسا ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ اَغیَموا فی المکان: وہ اس جگہ ٹھہرے۔ الغُیَم: پیاس اونٹوں کی ایک بیماری جو پیاس سے لگتی ہے۔

⊂ غامَ ـِ غَیمًا (آسمان کا) ابر آلود ہونا، بادلوں سے گھرا ہوا ہونا، بادلوں سے بھر جانا، پر بادل چھا جانا، کہر اور سخت دھند سے ڈھپا ہونا، دھندلا جانا۔ غَیَّم: آسمان کا ابر آلود ہونا، بادل بنانا، (سانپ کا) لہرانا، بہتے چلے جانا۔ اَغَام و اُغیَمَ: آسمان کا ابر آلود ہونا۔ غیم واحد غیمة: جمع غیوم و غیام بادل، کہر، دھند، غائم: ابر آلود، بادلوں سے بھرا ہوا، چھائے ہوئے بادلوں والا۔ مُتَغَیِّم: بادلوں سے بھرا ہوا، ابر آلود، چھائے ہوئے بادلوں والا۔

عین ا۔ غانَ ـِ غَینًا: پیاسا ہونا۔

۲۔ غانَ ـِ غَینًات نفسُهُ: جی متلانا۔ ـ ت السماءُ: آسمان پر بادل چھا جانا۔ غِینَ ت السماء: آسمان پر بادل چھا جانا۔ ـ علی قلبه: پر خواہشات کا غالب آنا۔ اَغانَ السحابُ السماءَ: بادلوں کا آسمان پر چھا جانا۔ اُغِینَ علی قلبه: پر خواہشات کا غالب آنا۔ الغَین: بادل۔ الغَینَة: پانی کے بغیر گھنے درخت۔ الغِینَة: جنگل۔ بن، درختوں کا جھنڈ۔ الاَغیَن م غَینَاء جمع غِین من الشجرو النبات: سبز اور لمبا درخت اور پودا۔

۳۔ غَیَّنَ غَینًا: حرف غین لکھنا۔ الغین: حروف تہجی کا ایک حرف (غ)

۴۔ الغِینَة: پیپ۔ مردار سے بہنے والا مادہ غیه: الغَیهَم: تاریکی

⊂ غَینَة: رخسار پر کا تل۔ خنزیر غینی: (گنی کا سور) امریکی چوہا۔

غِنیا۔: گنی Guine غِنیا الجدیدہ: نیو گنی (ملک)۔

غیی: ا۔ غَیَّا تَغیِیَةً و اَغیَا اِغیاءً الغَایَة ای الرایة: جھنڈا گاڑنا۔ ـ للقوم: لوگوں کے لئے جھنڈا گاڑنا۔ الغَایَة جمع غَایَات و غایٌ اور نسبت کیلئے کہیں گے غَائی: جھنڈا۔

۲۔ غَیَّا تَغیِیَةً الطیرُ علی الشیء: پر پرندہ کا پھڑ پھڑانا۔ غَایَا مُغَایَاةً القومُ فوق راسه بالسیوف: کے سر پر تلواروں کا بلند کرنا جیسے وہ اس پر سایہ کر رہے ہوں۔ اَغیَا اِغیَاءً الطیرُ: پرندے کا پھڑ پھڑانا۔ ــــ السحابُ: بادل کا ایک جگہ ٹھہر جانا۔ تغایات الطیرُ علی الشیء: پر پرندوں کا منڈلانا۔ کہا جاتا ہے۔ تغَایِوا علیه حتی قتلوه: انہوں نے مل جل کر اسے قتل کر دیا۔ الغَایَة: پھڑ پھڑانے والا پرندہ۔ الغَیَایَة جمع غَیَایات: بادل، گرد و غبار کی طرح ہر چیز جو سایہ کرے۔

۳۔ اَغیَا اغیاءً الرجُلُ: شرافت اور معاملہ میں انتہا تک پہنچنا۔ ــ الفرسُ فی سباقه: گھوڑے کا دوڑ میں حد مقررہ (منزل) تک پہنچنا۔ الغَایَة جمع غایات وغایٌ نسبت غائی: انتہا، مدت، مقصود فائدہ، کہا جاتا ہے۔ غایتُك ان تَفعَلَ کذا: تمہاری انتہائی طاقت یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ انت بعیدُ الغایة: تمہاری رائے درست ہے۔ الغَیَایَة جمع غَیَایات: کنویں کی گہرائی۔ المُغَیَّا: وہ جگہ جہاں گھڑ دوڑ کے لئے جھنڈا نصب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ الغایة لا تدخل فی المُغَیَّا: یعنی جھنڈا اس جگہ نہیں گاڑا جاتا جہاں اس کو گاڑنے کا ارادہ ہو۔ مقصود مفاد تک پہنچنے کی مشکل سے کنایہ ہے۔

۴۔ الغَایَة: چڑیوں کو شکار کرنے کی نے۔ الغَیَایَة جمع غیایات: سورج کی شعاع کی روشنی الغَیَّة: مادہ غوی دیکھیں۔

ف تلفظ فا۔ حروف تہجی کا بیسواں اور حروف ابجد میں اسی (۸۰) کے برابر ہے۔

بطور حرف عطف مندرجہ ذیل معانی میں مستعمل ہے۔

۱۔ ترتیب: جیسے: قام زید فعمر: زید کھڑا ہوا پھر عمر۔

۲۔ تعقیب: جیسے: حبسهٗ فقتلهٗ: اس کو قید کیا بعد میں قتل کر دیا۔ (قید کر کے قتل کر دیا)۔

۳۔ سببیت: ضربهٗ فمات: اس کو مارا تو وہ مر گیا۔

۴۔ حرف رابطہ: جواب کو شرط سے مربوط کرنے کے لئے جیسے: ان کنتم تحبوننی فاحفظوا وصایای: اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری یہ وصیتیں ذہن میں رکھنا۔

۵۔ شبہ جواب کو شبہ شرط کے ساتھ مربوط کرنے کے لئے جیسے: الذی یاتینی فلهٗ درهمٌ: میرے پاس آنے والے کے لئے ایک درہم ہے۔

۶۔ حرف ناصبہ جو حرف مضارع پر بتقدیر ان داخل ہو جیسے: زُرنی فاکرمَکَ: میرے پاس آؤ گے تو تمہاری عزت کروں گا۔ یہ سببیہ کہلاتا ہے۔

۷۔ استئناف: یہ پہلے معنی کے ساتھ تعلق توڑ کر دوسرے سے ابتداء کرنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے: یقول لهٗ کُنْ فیکونُ: وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یکون رفع کے ساتھ آتا ہے۔ اس وقت معنی ہوتا ہے فهو یکون۔

۸۔ زائدہ: جیسے: زیدٌ فلا تضربهٗ: (زید کو نہ مار)۔ (۲) خرجت فاذا الاسد فی الدار: میں نکلا شیر گھر میں تھا۔ (۳) لما قمت فقمنا: جب تو کھڑا ہوا ہم بھی کھڑے ہو گئے۔

○ ف: فدان (مربع کا پیمانہ) کا مخفف۔ ف: تب، اور تب، اور ایسے، اسی طرح، یوں، اس حد تک، اتنا، اس لئے، لہٰذا، لیکن تب، تاہم، لیکن مگر اس وقت؛ چونکہ، اس لئے کہ (انشائیہ کیساتھ) تاکہ۔ یوماً فیوماً: دن بدن، روز بروز، روزانہ۔ شیئاً فشیئاً: دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، بتدریج، رفتہ رفتہ۔ امر فقتلوهٗ: اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ فَاِنَّ: چونکہ اس لئے کہ۔ فاء: حرف فا کا نام۔ فابریقة اور فابریکة: فیکٹری، کارخانہ، پلانٹ۔

فات: اِفتَاتَ برأیه: رائے میں منفرد ہونا۔ — علیَّ الباطِلَ: کے میرے خلاف باطل گھڑ لینا۔ اُفتِیتَ: اچانک مرجانا۔

○ اِفتَات علی: کے بارے میں جھوٹ بولنا، کے خلاف سخت اقدام کرنا؛ (فرض وغیرہ) کی خلاف ورزی کرنا۔ افتات برأیه: اپنی رائے پر عمل کرنا۔ اِفتِیَات: ظلم، استبداد، تشدد۔

فَاتُورَة جمع فواتیر: بل، بیجک (bill, invoice)۔

الفَاتِیکان: ویٹیکن۔ (the Vatican) (روم کے پاپا کی بارگاہ جو ویٹیکن پہاڑی پر ہے)، پاپائی حکومت

فاد: ۱۔ فَأَدَ - فَأْدًا: کے دل پر مارنا، دل پر لگنا۔ فَأَدَ الخوفُ فلاناً: خوف کا کسی کو بزدل بنا دینا۔ فُئِدَ فَأْدًا و فَئِدَ - فَأَدًا: دل کی بیماری والا ہونا۔ الفُؤَاد جمع اَفئِدَة: دل، بسا اوقات عقل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ الفَئِید: بزدل جس میں دلاوری کا نام تک نہ ہو۔ المَفؤُود: دل کی بیماری والا، دلیری سے خالی، بزدل۔

۲۔ فَأَدَ - فَأْدًا الخبزَ: روٹی کو بھوبھل میں رکھنا۔ — اللحمَ فی النار: گوشت کو آگ پر بھوننا۔ تفأدت النارُ: آگ کا جلنا۔ اِفتَأَدَ الرجُلُ: بھوننے کے لئے آگ جلانا۔ — اللحم فی النار: گوشت کو آگ پر بھوننا۔ الفَئِید: آگ، بھنا ہوا۔ الأُفْؤُود جمع اَفَائِید: بھوبھل میں رکھی ہوئی روٹی، بھوبھل میں روٹی رکھنے کی جگہ۔ المِفأَد و المِفأَد و المِفأَدة جمع مَفَائِد و مَفَائِید: آگ کریدنے کی لکڑی یا لوہے کی سلاخ، سیخ۔ المُفتَأَد: آگ جلنے کی جگہ۔ المَفؤُود: بھوبھل میں رکھی ہوئی روٹی، بھنا ہوا (گوشت)

○ فُؤَادِیَة: فواد کیپ (جیسے جناح کیپ)، مصری ہوائی فوج کی موسم گرما کی میدان جنگ کی ٹوپی۔

فار: فَأَرَ - فَأْرًا التراب: مٹی کھودنا۔ — الشیءَ: کو دفن کرنا، چھپانا۔ فَئِرَ - فَأَرًا المکانُ: جگہ کا چوہے والا یا بہت چوہوں والا ہونا۔ الفَأْر (مص) جمع فِئران و فِئَرة: (مذکر و مونث کیلئے) (ح): چوہا۔ مکانٌ فَئِرٌ و ارضٌ فَئِرةٌ و مَفأَرة: جگہ اور زمین جہاں بہت چوہے ہوں۔ الفَأرة (ح): فأر کا واحد، مشک کا نافہ۔

○ فَارَة و فأرة جمع فارات: رندہ (Plane)۔ چوہا۔

فأس: فَأَسَ - فَأْسًا الخشبةَ: لکڑی کو کلہاڑی سے پھاڑنا۔ — الرجُلَ: کو کلہاڑی مارنا، سر کے پچھلے حصہ پر لگنا۔ الفَأْس (مص) جمع اَفؤُس و فُؤُوس: کلہاڑی۔ فاس بھی کہا جاتا ہے یہ لفظ مونث ہے۔ فأسُ الرأس: سر کے پچھلے حصہ کی ابھری ہوئی ہڈی۔ فأسُ الفم: منہ کا وہ کنارا جہاں دانت ہوتے ہیں۔ فأسُ اللجام: لگام کا وہ لوہا جو گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے۔

○ فَارِس و بلاد فارِس: فارس (Persia)۔ فارسی: Persian۔ فارُوز: فیروزہ (turquoise)۔ فازلین: ویسلین (vaseline)۔ فأس (مونث) جمع فُؤُوس و

فأس: تیشہ، تبر، کلہاڑی، پھاوڑا، کدال، بیلچہ، کھرپا۔

فاسُ: مراکش کا ایک شہر (Fez یا Fes)۔

فاشستی: فسطائی fascist, fascistic۔

فاشستیۃ: فسطائیت (fascism)۔

فاشسی: فسطائی۔

فاصولیا: باقلا، لوبیا، پھلی۔

فأف: فأفأ فأفاۃً الرجل: حرف فاء کو کثرت سے بولنا، ہکلانا، تتلانا، لکنت کرنا، رک رک کر بولنا، اٹک اٹک کر بولنا، بات کرنے میں رکنا۔

صفت: فأفاء اور فأفأ۔

فاق: فاق یفوق فُواقاً و فَواقاً: ہچکی آنا۔

الفُواق و الفَواق: معدہ سے نکلنے والی ہوا، ہچکی۔

فاکون جمع فواکین: ریل کار، کوچ (railroad car, coach)۔

فأل: فأل تفئیلاً و بالشیءِ: کو سے اچھی فال دلانا۔

تفأّل و تفاءل و اِفتأل بہ: سے اچھی فال لینا۔

الفأل جمع فؤول و أفؤل: نیک شگون۔ جیسے مریض کسی کو یا سالم کہتے سنے تو اس سے یہ سمجھے کہ وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے: لا فألَ علیک: اللہ کرے تجھے کوئی بدبختی پیش نہ آئے۔

الفِئال: بچوں کا ایک کھیل، (جس میں کسی چیز کو مٹی میں دبا کر اُس کے دو ڈھیر بنا کر سوال کرنا کہ چیز کس ڈھیر میں ہے)

المُفائِل: یہ کھیل کھیلنے والا۔

تفاءل ب: کو اچھا شگون سمجھنا، کو مبارک آغاز سمجھنا۔

فأل جمع فؤول و أفؤل: نیک شگون، پسندیدہ فال، رجائیت پسندانہ نظریہ، امید، اچھا شگون، فال نیک۔

قرأ الفأل: فال، شگون۔

تفاؤل: رجائیت، پرامیدی۔

مُتفائِل: قسمت کا حال بتانا۔ رجائیت پسند، رجائیت پسندانہ، پُرامید۔

فأم: فأماً من الماءِ: پانی سے سیراب ہونا۔

— البعیرُ: اونٹ کا گھاس سے منہ بھرنا۔

فأما و تفأم البعیر: اونٹ کا گھاس سے منہ بھرنا۔

أفأم الدلوَ: ڈول بھرنا۔

فأم و أفأم القتبَ: پالان کو وسیع کرنا۔

الفِئام جمع فُؤُم: لوگوں کی جماعت (اس لفظ سے اسکا واحد نہیں آتا) کہا جاتا ہے: قطعوہ فؤاما: انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

فالس: والز: ایک رقص جس میں جوڑے جوڑے ناچتے ہیں۔ waltz۔

فالوذج: فالوذجی: فالودہ۔

فانله و فانلا جمع فانلات: فالودہ جیسا، ملائم۔ فلالین (flannel)، فلالین کی نیچے پہننے کی قمیض under shirt۔

فانلات: زیر جامہ (under wear, under clothing)۔

فانوس جمع فوانیس: لالٹین۔

فانوس سحری: جادو کی لالٹین، (سلائیڈ) پروجیکٹر، آلہ تظلیل۔

فأی: فأی و فأیا رأسَ فلانٍ: کے سر کو تلوار سے پھاڑنا۔

ا۔ أفأی: تنگ وادی میں جا پڑنا۔

تفأی۔ انفأی: — القدح: پیالہ کا پھٹنا۔

— الشیءُ: چیز کا پھٹنا، کھلنا۔

— بین الشیئین: دو چیز کے درمیان درز، شگاف ہونا۔

الفأو (مص): دو پہاڑوں کے درمیان شگاف، وادی میں تنگ جگہ جو کھلی جگہ کو لے جائے، ریت کا تودہ، راستہ، پہاڑوں کے درمیان عمدہ زمین۔

الفِئۃ جمع فِئات و فِئون: جماعت، گروہ۔

الفأو: چکنی جگہ، آفتاب غروب ہونے کی جگہ۔

۲۔ فِئۃ جمع فِئات: گروہ، ٹولہ، جماعت، طبقہ، فوجی دستہ یا رسالہ، منڈلی، جتھا، پارٹی، پلٹن (platoon) (ہلکے اسلحہ کی)، شرح ٹیکس (تشخیص محاصل کی)، ٹیکس، فیس، قیمت۔

فاوریقہ جمع فواریق: کارخانے کا پلانٹ۔

فبرایر: فروری (February)۔

فبارك (جمع): کارخانے۔

فتّ: فتّ - فتّاً و فتّتَ الشيءَ: ا۔ کو انگلیوں سے ریزہ ریزہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: فتّ فی ساعدہِ: اس نے اس کو کمزور کر دیا۔ فتّ فی عضدہِ: اس نے اس کی قوت توڑ دی یا اس کے اعوان و اعضاء کو منتشر کر دیا۔

تفتّت و انفتّ الشیءُ: ٹوٹ جانا۔

الفتّ (مص): ہم پھوٹ میں پھٹن۔ کہا جاتا ہے: اہلُ بیتٍ فتٍّ و فِتٍّ و فُتٍّ: وہ منتشر لوگ ہیں۔

الفتّۃ و الفُتّۃ: خشک مینگنیاں جو توڑی جائیں اور چقماق کے نیچے رکھ کر آگ روشن کی جائے۔ (کہا جاتا ہے: ہذا لا یساوی فتّۃً: یہ تو مینگنی برابر بھی نہیں)، کھجوروں کا ڈھیر۔

الفُتات: چورا۔

الفتوت و الفتیت: چورا کیا ہوا۔

الفتیتۃ جمع فتائت: ریزہ ریزہ شدہ چیز کا ٹکڑا۔

المفتوت: چورا کیا ہوا۔

فتفت: ۲۔ فتفتۃً الیہ: سے چپکے چپکے بات کرنا۔ کہا جاتا ہے: ماہذہ الفتفتۃ و الدندنۃ: یہ کیا سرگوشی اور زیر لب بات چیت ہے؟۔

الفتافت: سرگوشیاں، پوشیدہ باتیں، کانا پھوسیاں، کھر پھسر۔

فتّ: فتّ فی ساعدہ: کو کمزور کرنا، نیچے سے کاٹنا، کی اندر ہی اندر جڑیں کھوکھلی کرنا، کو ختم کرنا۔

فتّ فی عضدہِ: کو کمزور کرنا، کی طاقت ختم کرنا، کی حوصلہ شکنی کرنا، کی ہمت توڑنا، کو بددل کرنا۔

۵: فتّت: کو ریزہ ریزہ کرنا، کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کو ضائع کرنا، اجاڑنا، کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا۔

یُفتّت القلب (الاکباد): دل شکن، دل ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا۔

تفتّت: ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ختم ہونا، منتشر ہونا۔

تفتّت - فتۃ: انفتّ بمعنی۔

فُتات: ایک قسم کا روٹی کا آش یا اس کی یخنی۔

فتیت: روٹی کے ٹکڑے، بھورے، لقمے، نوالے۔

فتیتۃ: روٹی کے ٹکڑے، بھورے، چُوری۔ روٹی کی یخنی کی ایک قسم۔

فتا: فتا - فتا النارَ: آگ بجھانا۔

— ہ عن الامر: کو کسی کام سے روک دینا۔

فتیءَ - فتأ عنہ: سے رکنا، کو بھول جانا۔ کہا جاتا ہے: مافتأ - و ما فتیءَ — یفعل ذلک: وہ یہ کر رہا ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور سوائے ماضی اور مضارع کے دوسرے افعال کا اس سے استعمال نہیں ہوتا۔

— و فتیء - ہ: (ما نافیہ کے ساتھ): کچھ ہوتا رہنا۔

فتیءَ - فتأ عن: سے رکنا، باز رہنا، کو کرنے سے رکنا۔

مافتیءَ یفعل: کو کرتے رہنا، کو مسلسل کرنا، لگاتار کرنا۔

فتح: فتح - فتحاً الباب: ا۔ دروازہ کھولنا۔

— القناۃ: (پانی جاری رکھنے کے لئے) نالی نکالنا۔

— اللہ علیہ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو سکھلا دینا، معرفت بخشنا۔

— سرّہٗ علی فلان: کسی پر اپنا بھید ظاہر کرنا۔

فتّح: فتح بمعنی تشدید کے ساتھ مبالغہ کے لئے آتا ہے۔

فاتح البیعَ: بیع میں آسانی کرنا۔

تفتّح: کھل جانا۔

— ت الاکمۃ عن النورِ: کلی کا کھلنا۔

انفتح: — عن الشیءِ: کھل جانا، کھلنا۔

افتتح و استفتح الابوابَ: دروازے کھول دینا۔

الفتح: ایک قسم کی حرکت جس سے منہ کھل جاتا ہے۔ — جمع فتوح: اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ روزی، دریاؤں کا جاری پانی۔

الفتحۃ: فتح کا اسم مرۃ: ایک مرتبہ کھولنا، زبر کی علامت۔

الفُتح: کھلا ہوا وسیع دروازہ، کھلی ہوئی بڑی شیشی۔

الفُتحۃ جمع فُتح: کشادگی۔

الفتّاح: صیغہ مبالغہ۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیونکہ وہ اپنے بندوں کے لئے رزق اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔

المفتح جمع مفاتح: چابی، کنجی، پانی کی نالی، دفینہ، خزانہ، کنز۔

المفتاح جمع مفاتیح: چابی، کنجی۔

۲۔ فتح - فتحاً الحاکمُ بین الناس: حاکم کا فیصلہ کرنا۔

فاتحہٗ: لوگوں کے درمیان کو فیصلہ کے لئے لے جانا۔

یوم الفتح: یوم قیامت۔

الفِتاح و الفُتوحۃ: الفَتاح و الفِتاحۃ و حکومت۔

الفُتَاحَة: دو دشمنوں کے درمیان فیصلہ۔ کہا جاتا ہے: بینهما فُتَاحَات: ان دونوں کے درمیان دشمنیاں ہیں۔ الفِتَّاح: حاکم، قاضی۔

فَتَحَ - فَتْحاً البلادَ: ملک پر غلبہ حاصل کرنا، ملک کا زبردستی مالک ہو جانا، ملک کو فتح کرنا۔ فَتْحاً و فَتَاحَةً اللّٰهُ علی فلان: کی مدد کرنا۔ اِفْتَتَحَ البلادَ: ملک کو فتح کرنا۔ اِسْتَفْتَحَ الرجلُ: مدد طلب کرنا۔

الفاتح جمع فَتَحَة و فاتحون (فا): فتح کرنے والا، کھولنے والا۔ الفَتْح (مص) جمع فُتُوح: مدد۔

الفُتُوحَات: جنگ سے فتح کئے جانے والے ممالک۔

الفُتَاحَة (مص): مدد۔

فَاتَحَ ہ بالامر: کے بارے میں سے پہلے مخاطب ہونا۔ — فُلاناً: سے بھاؤ کرنا مگر اسے کچھ نہ دینا۔

اِفْتَتَحَ و اِسْتَفْتَحَ الامرَ بکذا: کو سے شروع کرنا۔

الفَاتِحَة من الشیء جمع فَوَاتِح: چیز کا آغاز اور اس کی ابتداء اسی سے۔ فَاتِحَةُ الکتاب: کتاب کا آغاز، کتاب کی ابتداء، کتاب کا شروع۔

الفَتْح جمع فُتُوح و الفُتُوح جمع فُتْح: موسم بہار کی پہلی بارش۔ الاِسْتِفْتَاح (مص): حرف استفتاح نحویوں کے نزدیک الا ہے جیسے الا کل شیءٍ ماخلا اللّٰہ باطل: بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔

الاِفْتِتَاحِیَّة: اخبار کا اداریہ۔

تَفَتَّحَ فی الکلام و بالمال علی فلان: اپنی گفتگو اور مال کا کسی سے اظہار کرنا اور اس پر فخر کرنا۔

تَفَاتَحَ القومُ کلاماً بینهم: آپس میں چپکے چپکے باتیں کرنا۔ الفُتْحَة جمع فُتَح: اپنے علم و ادب یا مال کا اظہار اور اس پر فخر۔

○ فَتَحَ - فَتْحاً ہ: کو کھولنا؛ (ٹونٹی) کھولنا، بٹن دبا کر روشنی کرنا، بٹن دبا کر (مشین وغیرہ) رواں کرنا، (نہر) کھودنا، (سڑک) تعمیر کرنا: کو کھولنا، (تقریر وغیرہ) شروع کرنا، سے تعارف کرانا، آشنا کرانا، کو فتح کرنا، سر کرنا۔ — علی ہ: پر کا انکشاف کرنا، کو کچھ دکھانا، پر کچھ ظاہر کرنا، کو پر افشا کرنا، کو پر فتح عطا کرنا (اللہ کا)، (اللہ کا) کسی کے اقتدار میں کسی چیز کو دینا۔

— علی: پر نفع کے دروازے کھولنا (خدا کا)۔

علی ہ/ب: (اللہ کا) کسی کے دل پر کچھ ڈالنا، پر کا القاء کرنا، الہام کرنا، کو کچھ عطا کرنا۔ فُتِحَ البخت: قسمت کھلنا۔ فَتَحَ عینیه علی آخرهما: اپنی آنکھیں پوری کھولنا، کھلی آنکھوں سے تکنا۔ فَتَحَ الشهیةَ: بھوک، اشتہاء پیدا کرنا، تیز کرنا۔ فَتَّحَ ہ: کو کھولنا، پھول کی کلی کا کھلنا۔ فَاتَحَ ہ: سے پہلے خطاب کرنا، سے پہلے بات کرنا۔ — ہ فی: کے بارے میں گفتگو شروع کرنا۔ — ہ ب/ہ: پر کوئی بات ظاہر کرنا، پر کا انکشاف کرنا۔ تَفَتَّحَ: کھلنا۔ — عن: کھلنا تا کہ کوئی چیز قابل فہم ہو جائے۔ تَفَتَّحَ: دل کا اثر پذیر ہونا۔ اِنْفَتَحَ: کھلنا، کھولا جانا۔ اِفْتَتَحَ ہ: کا افتتاح کرنا، کا تقریب سے آغاز کرنا، کو کھولنا، کو سے شروع کرنا، کو سے رواج دینا، کو تمہید سے شروع کرنا۔ — ہ ب: کو فتح کرنا، سر کرنا۔ اِسْتَفْتَحَ ہ: کو شروع کرنا، کا آغاز کرنا۔ — علی: کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، پر فتح کی اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا کرنا۔ فَتْح: کھولنا، آغاز، ابتداء، مقدمہ، تمہید، تعارف، شناسائی۔ فتح الاعتماد: بنک میں حساب کھولنا، ہنڈی پیش کرنا۔ فُتُوح و فُتُوحات: خیرات، عطیات، چندے، کسی ولی کے مقبرے کے ساتھ بنی ہوئی مسجد کے لئے جہاں تعلیم اور علاج کی سہولتیں فراہم کی گئی ہوں۔ فَتْحَة جمع فُتَح و فُتُحات: شگاف، سوراخ، راستہ، درز، موکھا، روشن دان، روزن، خندق، کھائی، پانی کے بند کا دروازہ جس کو کھول کر پانی چھوڑا جاتا ہے۔ فَتَّاح: (روزی اور نفع کے دروازے) کھولنے والا (باری تعالیٰ کی ایک صفت)۔ فَتَّاحَة جمع فَتَّاحَات: ڈبہ وغیرہ کھولنے کا اوزار۔ مِفْتَاح جمع مَفَاتِیح: چابی، کنجی، سوچ، لیور (lever)، پیڈل (سائیکل گاڑی وغیرہ کا)، لٹو، (ریڈیو کھولنے اور بند کرنے کا)، (شہنائی وغیرہ کا) والو volve، کھونٹی، کیل، میخ، بن۔ مِفْتَاحجی: (ریلوے کا) کانٹے والا۔ مُفَاتَحَة: گفتگو کا آغاز۔ مبلغ افتتاحی: شروع کی بولی، سب سے کم بولی۔ فصل (مقال) افتتاحی اور المقالة الافتتاحیة: اداریہ، ایڈیٹوریل، اہم مضمون۔ فَاتِح: کھولنے والا، شروع کرنے والا، فاتح، ہلکا (رنگ)۔ فاتح البخت: نجومی، جوتشی۔ ازرق فاتح: ہلکا نیلا۔ مَفْتُوح: کھلا۔ الباب مفتوح علی مصراعیه: دروازہ کے دونوں پٹ کھلے ہوئے ہیں۔ مُفَتِّح: اشتہاء انگیز، بھوک بڑھانے والا۔ مُفْتَتَح: آغاز، شروع، ابتداء، افتتاح۔

فَتَخَ - فَتْخاً و فَتَخَ اصابعَهُ: انگلیوں کو مروڑنا، نرم کرنا۔ فَتِخَ - فَتَخاً: ڈھیلے، نرم اور کمزور جوڑوں والا ہونا۔ صفت: اَفْتَخ۔ اَفْتَخَ الرجلُ: کا تھکنا، سانس پھولنا۔ تَفَتَّخَ: انگلیوں میں چھلا پہننا۔ الفَتَخ: جوڑوں کا ڈھیلا اور نرم ہونا۔ الفَتْخَة و الفَتَخَة جمع فَتَخ و فَتَخات و فُتُوخ و فِتَاخ: چھلا، بغیر نگینہ کی انگوٹھی۔ (نگینہ والی انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں)۔ الاَفْتَخ مونث فَتْخاء جمع فُتْخ: نرم کمزور اور ڈھیلے جوڑوں والا۔ رجل افتخ الطرف: کمزور نگاہ والا۔ الفَتْخاء: نرم بازوؤں والا عقاب۔ الفَتَخ و الفَتْخَة: بالائی بازو اور بازو کا اندرونی حصہ۔ فُتُوخ الأسد: (واحد فتخ) شیر کے پنجے۔ الاَفْتَخ مونث فَتْخاء جمع فُتْخ: چوڑے کندھے والا شیر۔

فَتَرَ - فُتُوراً و فُتَاراً: تیزی کے بعد ساکن ہونا۔ سختی کے بعد نرم پڑنا۔ — الماءُ: پانی کی حرارت کم ہونا۔ — فَتْرَةً و فُتُوراً الحرُّ: گرمی کا کم ہونا۔ فَتَّرَ: تیزی کے بعد ساکن ہونا، سختی کے بعد نرم پڑنا۔ — السحابُ: بادل کا ٹھہرنا، آمادہ بارش ہونا۔ — الماءَ: گرم پانی کی حرارت کو کم کرنا۔ تَفَتَّرَ: تیزی کے بعد ساکن ہونا، سختی کے بعد نرم پڑنا۔ — الماءُ: پانی کی حرارت کم ہونا۔ الفَتْرَة جمع فَتَرات: بخار کی دو باریوں کے درمیان کا زمانہ، صلح۔ ماء فاتور: نیم گرم پانی۔

فَتُرَ - فُتُوراً و فُتَاراً عن العمل: کام میں کوتاہی کرنا۔ — فَتْراً و فُتُوراً جسمُهُ: کے جسم کے جوڑوں کا نرم اور کمزور ہونا، کو سکون اور نرمی پر آمادہ کرنا۔ فَتِرَ: کمزور پلکوں والا ہونا۔ اَفْتَرَ ہ الداءُ او السکرُ: کو بیماری یا نشہ کا کمزور کر دینا۔ — الشرابُ: پینے والے کو شراب کا مست کر دینا۔ تَفَتَّرَ عن العمل: کام میں کوتاہی کرنا۔ اِسْتَفْتَرَ الفرسُ: گھوڑے کی سواری نہ کئے جانے پر اور کھلا چھوڑنے پر تھکن جاتی رہنا۔ الفُتُور: کمزوری، پژمردگی۔ الفَتْرَة: سستی، کمزوری۔ الفُتْرَة و الفِتْر جمع فَتَرات: ایک قسم کی مچھلی جس کو پکڑنے سے کپکپی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے رعادہ بھی کہتے ہیں (ح)۔ الفُتَار: ابتدائی نشہ۔

فَتَرَ - فَتْراً ہ: کو فتر سے ناپنا۔ الفِتْر: انگشت شہادت اور انگوٹھے کے سروں کے درمیان کا کھلی ہوئی حالت میں فاصلہ۔ الفِتْر: کھجور کی چٹائی جس پر آٹا چھانا جاتا ہے۔ الفَاتُورَة جمع فَوَاتِیر (ت): فہرست جو سامان کے ساتھ بھیجی جاتی ہے اور جس میں سامان کی اقسام، ان کی مقدار، قیمت اور اخراجات کی تفصیل درج ہوتی ہے، بیجک (invoice)۔

فَتْرَصَ - فَتْرَصَةً ہ: کو کاٹنا۔ فَتْوَرَ: کم ہونا، مدھم پڑنا، اتر جانا، دب جانا،

فرو ہونا، اونگھنا، کمزور ہو جانا، مضمحل ہونا، ڈھیلا ہونا یا پڑنا، (پانی کا) ٹھنڈا ہونا، نیم گرم ہونا۔ — عن: میں ڈھیلا ہو جانا، نافرض شناس ہونا، دلچسپی نہ رکھنا، کوتاہی کرنا۔ فتّر ہ: کو فرو کرنا، گھٹانا، کا زور کم کرنا، کی شدت کو گھٹانا، کو ہلکا کرنا، کا درد دور کرنا، کو آرام دینا، کو نرم کرنا۔ — ہ/ ہ: کو کمزور کرنا، کو بے ہمت یا مردہ دل کرنا، کو غافل کرنا، نڈھال کرنا، ڈھیلا کرنا۔ — ہ: (پانی) کو نیم گرم یا شیر گرم بنانا۔ افتر ہ/ ہ: کو کمزور کرنا، بے ہمت کرنا، غافل کرنا، نڈھال کرنا۔ تفتّر: (پانی کا) نیم گرم ہونا، اونگھنا، کمزور ہونا، مضمحل ہونا، ڈھیلا ہونا یا پڑنا۔ فِتر جمع اَفتار: چھوٹی بالشت، کونہ۔ فَترة: سستی، الکسی، ضعف، کمزوری، تھکان، بے کیفی، ڈھیلا پن یا اضمحلال، ناتوانی، ناطاقتی، نقاہت، پژمردگی، نیم گرمی، شیر گرماہٹ، بے اعتنائی، بے توجہی، عدم دلچسپی، غیر جانبداری، سرد مہری (احساس و جذبات کی) جمع خالی وقت وقفہ، توقف، عرصہ، تھوڑی سی دیر، مدت وقت۔ فترةُ الانتقال: عبوری عرصہ۔ بین فترة و اخری: کبھی کبھی، وقتاً فوقتاً۔ فی الفترة بعد الفترة: کچھ کچھ وقفوں کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، کبھی کبھی، کبھی کبھار۔ فُتور: سستی، الکسی، ماندگی، کمزوری، ناتوانی، تھکاوٹ، تکان، ڈھیلا پن، بے پروائی، نیم گرماہٹ، شیر گرماہٹ۔ فاتِر: نڈھال، سست رفتار، پژمردہ، کمزور، بے ہمت، ڈھیلا، ڈھیلا ڈھالا، نرم، پھیکا، ہلکا، ماند، سرد، پھیکا مندا (بازار حصص: stock exchange) نیم گرم، شیر گرم۔ مُتَفتّر: وقفہ والا۔

فتش: ا۔ فَتَشَ ـ فَتشاً و فتش الشیءَ: کا معائنہ کرنا، کی جانچ پڑتال کرنا، کو جانچنا، کا امتحان کرنا، کی تلاشی لینا۔ — عنه: کے بارے میں دریافت کرنا اور کی تفتیش کرنا۔ الفتّاش: صیغہ مبالغہ، بہت جستجو کرنے والا، بہت تلاش کرنے والا۔ المُفتّش جمع مُفتّشون: انسپکٹر، معائنہ کار۔

۲۔ الفتّوش (ط): ایک قسم کا کھانا جو روٹی کے ٹکڑوں، پیاز، اجوائن اور کھیرے وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔

۳۔ الفِتّیش عند العامة: آتشی تیر (rocket)۔

○ فتّش ہ: کا پورا جائزہ لینا، کی جانچ پڑتال کرنا، کو ڈھونڈنا، (کی) تلاش کرنا، کی تفتیش کرنا، کا گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا۔ — عن: کو پوچھنا، کا حال پوچھنا، کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ — ہ/ ہ/ علی: کی نگرانی کرنا، کا انتظام کرنا، کو قابو میں رکھنا، پر تسلط قائم رکھنا، کا معائنہ کرنا۔ — علی: کا نگران ہونا، کی نگرانی کرنا، کو قابو میں رکھنا، کا معائنہ کرنا۔ فتّاش: مکمل امتحان یا جائزہ لینے والا، تحقیقات کرنے والا، محقق، چھان بین کرنے والا۔ تفتیش جمع تفَاتیش: امتحان، بغور مشاہدہ، جائزہ، چھان بین، جانچ پڑتال، تلاشی، تلاش، تحقیقات، پوچھنا، دریافت کرنا، گہرا مطالعہ، غور و خوض، نگرانی، کنٹرول، فریضہ، کار متعلقہ، مفوضہ کام، طائرانہ نظر، جائزہ، معائنہ، نظر ثانی، کنٹرولنگ باڈی (controling body)، کنٹرول بورڈ، عدالتی (یا سرکاری) تحقیقات، آبپاشی کا دور یا علاقہ۔ اور اسے تفتیشُ الری بھی کہا جاتا ہے: تفتیش جوّی: ہوائی یا فضائی معائنہ۔ مُفتّش: انسپکٹر، سپروائزر۔ مُفتّشیة: نظارت۔

فتغ: فَتَغَ ـ فَتغاً الشیءَ: پر قدم رکھ کر کچل ڈالنا، کو کچل دینا، ریزہ ریزہ کرنا۔ تفتّغ: کچلا جانا، ریزہ ریزہ ہونا۔

فتق: ا۔ فَتَقَ ـ فَتقاً و فتّق الشیءَ: کو پھاڑنا۔ — الثوبَ: کپڑے کی سیون توڑنا، کپڑے کو ادھیڑنا۔ — بین القوم: قوم میں اختلاف پیدا کرنا جس کی وجہ سے ان میں جنگ دوبارہ شروع ہو جائے۔ فتِقَ ـ فتقاً المکانُ: جگہ کا سرسبز ہونا۔ افتق القومُ: خوشگوار موسم سے متمتع ہونا۔ — قرنُ الشمس: آفتاب کا بادلوں میں سے نظر آنا۔ — السحابُ: بادل کا کھل جانا، چھٹ جانا۔ تفتّق: پھٹنا۔ انفتق: پھٹنا۔ — ت الماشیةُ: مویشی کا موٹا ہو جانا۔ الفتْق (مص): سرسبزی۔ (طب): کھال کے نیچے جھکنے والی بیماری۔ عوام لوگ اسے فتاق کہتے ہیں۔ — جمع فُتوق: صبح: کشادہ جگہ۔ کہا جاتا ہے: خرج فلان الی فتق: فلاں شخص کشادہ جگہ کی طرف نکل گیا۔ الفَتَق: صبح۔ الفِتاق: سورج کی پہلی شعاعیں، آفتاب۔ الفتِیق: موٹائی سے پھٹ جانے والی چیز۔ الصبح الفتیق: روشن صبح۔ الفَیتَق: دربان، بڑھئی، لوہار۔ مَفتَقُ القمیص: قمیص کا گریبان۔ المَفتُوق (مفع): فتق کی بیماری والا۔

۲۔ فَتَقَ ـ فتقاً و فتّق الکلامَ: کلام کو واضح کہنا۔ تفتّق فلانٌ بالکلام: کی زبان کا رواں ہونا۔ امراۃٌ فتقٌ و مُتفتّقةٌ: تیز زبان، جلد جواب دینے والی عورت۔ رجلٌ فتیقُ اللسان: تیز زبان مرد۔

۳۔ فَتَقَ ـ فَتقاً العجینَ: گندھے ہوئے آٹے میں خمیر ڈالنا۔ — و فتّق المسكَ: مشک کی خوشبو نکالنا۔ الفِتاق: مختلف دواؤں کا مرکب، خمیر۔

۴۔ افتق الرجُلُ: پر آفتوں کا دباؤ ہونا۔ الفتْق: زندگی میں خلل، خشک سالی، قحط سالی۔ — جمع فُتوق: وہ جگہ جہاں بارش نہ ہوئی ہو لیکن اردگرد بارش ہو چکی ہو۔ کہا جاتا ہے: عامٌ ذو فُتوق: کم بارش والا سال۔ الفُتوق: آفتیں جیسے بیماری، بھوک، تنگ دستی اور قرض۔

۵۔ الفِتاق: درخت خرما کی سفید جڑ۔ الفَیتق: بادشاہ۔

○ فتَقَ ـ فتقاً (ہ): کپڑے کی سیون توڑنا، کو ادھیڑنا، کے ٹانکے، بخیے توڑنا، سلائی ادھیڑنا، کو چیرنا، پھاڑنا، چیر کا شگاف ڈالنا، چاک کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کاٹنا۔ فتقَ الذهنَ: کو اس کا راستہ صاف اور واضح دکھانا، کو چیزیں ان کی اصلی روشنی میں دکھانا۔ الضرورةُ تفتقُ الحیلةَ: ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ فُتقت لهُ حیلةٌ: اس کے دل میں ایک بہانہ آیا، سے ایک بہانہ سوجھا۔ فتّق ہ: کی سیون، سلائی، ٹانکے توڑنا، کے بخیے ادھیڑنا، کو چیرنا، چاک کرنا، پھاڑنا، چیر کر شگاف ڈالنا، کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تفتّق: سیون، سلائی ادھڑنا، بخیے ٹانکے ٹوٹنا، پھٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، چرنا۔ — عن: کو وجود میں لانا، پیش کرنا، منصوبہ پکانا، کی تدبیر نکالنا یا کرنا، کا جتن کرنا، بندوبست کرنا، ایجاد کرنا، اختراع کرنا۔ اِنفتق: (کپڑے وغیرہ کے) ٹانکے یا بخیے ٹوٹنا، کی سلائی یا سیون ادھڑنا، پھٹنا، چرنا، چاک ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ٹوٹنا، کٹنا۔ — عن: کو پیش کرنا، وجود میں لانا، تخلیق کرنا۔ فتْق جمع فُتوق: چیر، شگاف، پھٹا ہوا ہونا، چاک، درز، دراز، دراڑ، چیر، کاٹ، سوراخ، چھید، آنت کا خصیہ میں اتر جانا، بادخایہ (hernia) فوتوں کا ورم (rupture)۔ مصاب بالفتق: مرض بادخایہ، فوتوں کے ورم میں مبتلا۔ فِتاق: بادخایہ، فوتوں کا ورم (hernia, rupture)۔ فتیق: ٹانکے، سیون، سلائی، ادھڑا ہوا، پھاڑا ہوا، چیرا ہوا، کاٹا ہوا، چاک شدہ، تیز، مفتوق ادھڑا ہوا، پھاڑا ہوا، چیرا ہوا، کاٹا ہوا؛ فوتوں کے ورم میں مبتلا۔

فتك: ا۔ فَتَكَ ـ فَتكاً و فِتكاً و فُتكاً و فُتوكاً الرجُلُ: دلیر ہونا، بہادر ہونا، نڈر ہونا۔ — بفلان: کو اچانک دبوچنا یا قتل کر ڈالنا۔ فاتكَ مُفاتكةً: سے کھلم کھلا لڑائی کرنا۔ — الشیءَ و الامرَ: کو تحقی سے کرنا۔ افتكَ الرجُلُ: بمعنی فتكَ۔ تفتّك بامره: کو خود رائی سے کرنا اور کسی سے مشورہ نہ کرنا۔ الفاتِك (فا) جمع فُتّاك: بہادر، دلیر۔ کہا جاتا ہے: هو فاتِكُ القلب: وہ کام کو کر گزرنے والا ہے۔

۲۔ فَتَكَ ـ فَتكاً و فِتكاً و فُتكاً و فُتوكاً فی الامر: پر اصرار کرنا، کو خوب کرنا۔ — فُتوكاً فی الخبث: خباثت میں مبالغہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: ما افتكهُ: ••

بہت جھگڑالو ہے۔

٣۔ فَتَكَ ۔فُتُوكًا فی صناعتِهِ: اپنے پیشہ میں ماہر ہونا۔ فاتَكَ مُفاتَكَةً ہ: کا ہنرمندی میں مقابلہ کرنا۔

٤۔ فَتَكَ القُطنَ: روئی دھننا۔

٥۔ فاتَكَهُ مُفاتَكَةً: کو منہ مانگی قیمت دینا۔

فَتَكَ ۔فَتكًا ب: کو قتل کرنا، کو دھوکے سے قتل کرنا۔ — ب: کو تباہ کرنا، کو نیست و نابود کرنا۔ — ب: پر اچانک حملہ کرنا، پر حملہ کرنا، دھاوا بولنا۔ فتك به فتكًا ذريعًا: کو روکنا، آگے نہ بڑھنے دینا، تباہ کرنا، کا نام و نشان مٹا ڈالنا، کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا، کو جڑ سے اکھاڑنا، کا قلع قمع کرنا، کا استیصال کرنا، (بیماری) کا کے بڑے حصہ کو تباہ یا ہلاک کر دینا۔ فَتْك: دھوکے سے قتل، قتل، تباہی، تباہ کاری، بربادی، فناء کامل۔ فَتكة جمع فَتَكات: بربادی، ویرانی، غارت، تاراج، تباہی، تباہ کاری۔ فتّاك: جان لیوا، مہلک، قاتلانہ۔ — ب: پر خوفناک اثر کرنے والا، پر تباہی لانے والا۔ أفتَك: زیادہ مہلک، زیادہ جان لیوا، زیادہ تباہ کن۔ فاتِك جمع فُتّاك: قاتل۔

فتل: ١۔ فَتَلَ ۔فَتلًا الحبلَ: رسی بٹنا۔ کہا جاتا ہے: فتل وجهَهُ عنهم: اس نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ فتل ذُؤابَةَ فلانٍ: اس نے اس کو اس کی رائے سے ہٹا دیا۔ مازال يفتل من فلان في الذروة والغارب: وہ فلاں کی فریب دہی کیلئے چکر لگاتا ہے۔ فَتِلَ ۔فَتَلًا: دور دور پہلوؤں والا ہونا صفت: أفتَل مونث فتلاء۔ فَتَّلَ الحبلَ: رسی بٹنا۔ تَفَتَّلَ و انفتَلَ: بٹنا بٹا ہوا ہونا۔ الفَتلة جمع فَتَل: ایک بار بٹنا، ہاتھ کے پٹھے کی سختی۔ الفتّال: بہت بٹنے والا۔ الفَتيل مونث فتيلة: بٹا ہوا (دھاگا)، بدن کی میل کی بتی جو ملنے سے بنتی ہے۔ کہا جاتا ہے: ما أغنى عنك فتيلًا: وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ الفتيلة جمع فتائل و فتيلات: وہ بتی جس سے چراغ روشن کیا جاتا ہے: المِفتَل: بٹنے کا آلہ۔ مَفتُول (مفع) الخلق: مضبوط اور گٹھے ہوئے جسم والا۔

٢۔ فَتَلَ ۔فَتلًا البلبلُ: بلبل کا چہچہانا۔ الفتّال (ح): بلبل۔

٣۔ الفَتلة جمع فَتَل: بیری اور ببول کے دانے رکھنے کا برتن۔ کہا جاتا ہے: ما أغنى عنك فَتلَةً: میں تم کو کچھ بھی فائدہ نہ دوں گا۔ الفَتلة جمع فَتَل: درخت عرفط یا عضاہ کا دانہ۔ کہا جاتا ہے: ما أغنى عنك فتلةً: وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ الفَتيل: کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں باریک بتی۔

فَتَلَ ۔فَتلًا ہ: کو بٹنا، کو بل ڈالنا، کو لپیٹنا، کو مروڑنا، کی چوٹی گوندھنا، کو کاتنا۔ فَتَّلَ ہ: کو بٹنا، کو بٹنا، مروڑنا، بل دینا، بٹ کر ہار بنانا، گھمانا، کا لچھا بنانا، کو چکر دینا، کو چوٹی کی صورت میں گوندھنا، (رسی کی) لڑیوں کو آپس میں بل دے کر گوندھنا۔ تَفَتَّلَ: بٹنا، بٹا جانا، گھمایا جانا، چوٹی کی صورت میں گوندھا جانا۔ انفتل بمعنی تفتل۔ انفتل من: کو ایڑیوں کے بل مڑ کر چھوڑ جانا، سے پھر جانا۔ انفتل من الباب: دروازے سے چپکے سے نکلے جانا۔ شمّع الفتلة: بھاگ جانا، فرار ہو جانا۔ فتّال: رسی بٹنے والا۔ فتيل: جمع فتيلات و فتائل: بتی (wick)، شتابہ (جمع) فیتہ، بتی، بارود کی بتی (fuse)، تار کی بہت باریک جالی (gauze)، خون روکنے کے لئے روئی یا پٹی کی گدی (tampon)، توپ کے فتیلہ کی ڈوری۔ فتيلة جمع فتيلات و فتائل: بتی (wick)، بجلی کے قمقمہ کے باریک تار (filament) مَفتُول: لمبا تڑنگا، گٹھیلا، زور آور، مضبوط جسم کا، گٹھا ہوا، پہرے کا مینار، دیدبان (نجد)۔ مفتول الساعد: مضبوط، گٹھا ہوا، ہٹا کٹا، سنڈا، مسٹنڈا، کسرتی بدن کا، موٹا تازہ، جسیم طاقتور۔

فتن: ١۔ فَتَنَ ۔فَتنًا و فُتُونًا ہ: کو تعجب میں ڈالنا، مائل کرنا، فریفتہ کرنا۔ — فُتُونًا و فتن إلى النساء: عورتوں سے بدکاری کرنے کا ارادہ کرنا۔ فتّن و أفتن ہ: کو تعجب میں ڈالنا، مائل کرنا، فریفتہ کرنا۔ الفِتنة جمع فِتَن: مال و اولاد۔ فتنة النهار (ن): ایک پودا جس کے پھول دن کے وقت کھلتے ہیں اور رات کو بند ہو جاتے ہیں۔ الفتّان: فتنہ انگیز۔ الفتّانة: فتّان کا مونث۔

٢۔ فَتَنَ ۔فِتنةً و مَفتُونًا فلانًا: کو گمراہ کرنا۔ — فتنًا فلانًا عن رأيه: کو اس کی رائے سے روک دینا، پھیر دینا۔ فُتِن في دينه: دین سے اعراض کرنا۔ افتُتِن في دينه: دین سے اعراض کرنا۔ الفِتنة جمع فِتَن: گمراہی، کفر، رسوائی۔ الفاتن (فا): حق سے گمراہ کرنے والا، شیطان، چور۔ الفتّان: شیطان، چور۔

٣۔ فَتَنَ ۔فتنًا و فُتُونًا ہ: کو فتنہ میں ڈالنا۔ — الرجلُ: فتنہ میں پڑنا (لازم و متعدی) صفت: فاتن جمع فتّان۔ فتّن و أفتن ہ: کو فتنہ میں ڈالنا۔ تفتّن ہ: کو فتنے میں ڈالنے کے لئے تکلف کرنا۔ افتتن: فتنہ میں پڑنا۔ — ہ: کو فتنہ میں ڈالنا۔ الفتنة جمع فِتَن: اختلاف آراء۔ لوگوں کے مابین واقع ہونے والی جنگ و جدل۔

٤۔ فَتَنَ ۔فِتنةً و مَفتُونًا فلانًا: کی آزمائش کرنا۔ — فتنًا الشیءَ: کو جلا دینا۔ فِتنةُ الصائغِ الذهبَ: سنار کا سونے کو پگھلا کر کھوٹا کھرا معلوم کرنا۔ فُتِن: مصیبت زدہ ہو کر مال یا عقل کا جاتا رہنا۔ افتُتِن: بمعنی فُتِن۔ الفَتن (مص): حال، فن، قسم۔ العمرُ فنّان: عمر کی دو قسمیں ہیں، اچھی اور بری یا میٹھی اور کڑوی۔ الفِتنة (مص) جمع فِتَن: آزمائش، عبرت، عذاب، بیماری، جنون، دیوانگی۔ الفَتّان: سنار۔ الفتّانان: سونا اور چاندی۔ الفتّانة: کسوٹی۔ الفَتين جمع فُتُن (ط ١): سیاہ گرم زمین جس کے پتھر جل گئے ہوں۔ ذهبٌ فتين: جلا ہوا سونا۔ الفَيتن: بڑھئی۔ المفتُون (مفع): دیوانہ۔

فتنَ ۔فتنًا و فُتُونًا ہ من: کو سے پھیر دینا۔ — ہ: کو آزمائشوں اور لالچوں میں ڈالنا، کو اکسانا، ترغیب دینا، پھنسانا، ورغلانا، پھسلا کر لے جانا، موہ لینا، لبھانا، دھوکا دینا، کو فریفتہ کرنا، گرویدہ کرنا، لبھانا، شیفتہ کرنا، مسحور کرنا، وجد میں لانا، لٹو کرنا۔ فتّن ۔فتّانًا ہ: کو سخت اذیت پہنچانا یا دینا۔ — على: کے خلاف مخبری کرنا۔ فُتِنَ ب: پر فریفتہ ہونا، سے مسحور ہونا، پر لٹو ہونا، کا گرویدہ ہونا، سے محبت ہو جانا، پر پاگل ہو جانا، کے پیچھے پاگل سا ہو جانا۔ افتتن ہ: کو فریفتہ کرنا، گرویدہ، مسحور کرنا۔ افتتن ہ: کو حرص و طمع میں ڈالنا۔ افتتن: مسحور ہونا، سحر زدہ ہونا، اکسانے میں آنا، لٹو ہونا، فریفتہ ہونا۔ افتتن و افتُتِن: حرص و طمع میں آ جانا، صحیح راستے سے ہٹ جانا نیز افتُتِن بمعنی فُتِن۔ فتنة جمع فِتَن: ترغیب، تحریص، لالچ، آزمائش، دلفریبی، دلکشی، دلربائی، دلبری، دل آویزی، حسن و جمال، کشش، ورغلانا، غلط راہ پر لگانا، فریفتگی، شیفتگی، سازش، ساز باز، گٹھ جوڑ، بغاوت انگیز تقریر یا اقدام، بلوہ، فساد، اودھم، دھما چوکڑی، اختلاف، نااتفاقی، ان بن، نزاع، جھگڑا، فساد۔ مفاتن: دلکش خوبیاں، حسن و جمال، ساحرانہ قوتیں۔

فتو: ١۔ فَتَا ۔فَتْوًا الرجلَ: پر جوانمردی اور سخاوت میں غالب ہونا۔ فاتى الرجلَ: پر جوانمردی اور سخاوت میں غالب آنے کی کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے: فاتوني ففتوتهم: انہوں نے جوانمردی اور سخاوت میں مجھ پر غالب آنے کی کوشش کی تو میں ان پر غالب ہو گیا۔ تفتّى تفتّيًا الرجلُ: سخی ہونا۔ تفاتى: سخی ہونا، اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنا۔ الفُتُوّة: سخاوت اور جوانمردی۔ الفتى تثنیہ فتَوان و فتَيان جمع فِتيان و فِتية و فُتُوّة و فُتُوّ و فُتِيّ و فِتِيّ: سخی۔

۲۔ فَتِيَ - فَتًى جوان ہونا۔ فَتِيَ تَفْتِيَةً ـت البنتُ پردہ نشین ہونا، لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے اجتناب کرنا۔ تفتی تفتیا ـت البنتُ لڑکی کا پردہ نشین ہونا، لڑکوں کے ساتھ کھیلنا بند کرنا۔ ـ الرَّجُلُ جوان ہونا۔ جوان بننا، جوانوں کا انداز اختیار کرنا۔ کہا جاتا ہے: أبرَدُ مِن شیخ یتفتی جوانوں کے انداز اختیار کرنے والے بوڑھے سے زیادہ ٹھنڈا۔ الفتاء جوانی۔ الفتوہ الفتی تثنیہ فتوان و فتیان جمع فِتیان و فِتیَة و فُتُوّ و فُتِیّ و فِتِیّ نوجوان، غلام۔ الفتیان رات اور دن۔ کہا جاتا ہے: لا أفعله ما اختلف الفتیان: جب تک رات دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ الفتاۃ جمع فتیات و فتاو الفتی کا مؤنث، نوجوان عورت، لونڈی۔ الفتیع فتاء افتاء م فتیة الفتیة (ن) ہر ایک جواں سال۔ ایک پھولدار پودا۔

۳۔ فاتی الرجل سے پوچھنا۔ أفتی إفتاءً فلاناً في المسالة کو کسی مسئلہ میں فتوی دینا۔ تفاتی القوم الی العالم لوگوں کا فتوی دریافت کرنے کے لئے عالم کے پاس جانا۔ استفتی استفتاءً العالم فی مسالة عالم سے کسی مسئلہ میں فتوی طلب کرنا۔ الفتوی و الفتوی و الفتیاء جمع الفتاوی و الفتاوَی شرعی مسائل میں ماہر شریعت کا فیصلہ۔ المفتی (فا) ماہر علم فقہ جو مسائل کا جواب دے سکے۔

فتی - فتاءً نوجوان ہونا، جوان ہونا۔ أفتی ہ فی کو کسی مسئلہ میں یا اس کے متعلق باقاعدہ قانونی رائے دینا، کو کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، سے کسی نظریہ وغیرہ کی وضاحت کرنا، کو کچھ پیش کرنا۔ ـ فی کے بارے میں رائے دینا۔ ـ ب کے لئے یا کے حق میں قانونی رائے کے ذریعے فیصلہ کرنا۔ ـ بان (قانونی) رائے کے طور پر بیان کرنا کہ...... استفتی ہ فی سے میں یا کے بارے میں باقاعدہ قانونی رائے دریافت کرنا، سے کے بارے میں حسب ضابطہ رائے طلب کرنا۔ ـ ہ فی کے بارے میں کی معلومات کی استدعا کرنا، سے میں یا کے متعلق مشورہ طلب کرنا، سے میں یا کے بارے میں مشورہ کرنا، کے بارے میں کسی کی رائے طلب کرنا۔ فتی جمع فتیان و فتیة جوان، نوجوان، نوعمر، جوانی والا، کمسن، نابالغ، غلام، ہیرو (hero)۔ فتوی جمع فتاوٍ و فتاوی فتوی۔ فتیا فتوة: جوانی، کم سنی، جوانمردی، سخاوت، نیک دلی جمع فتوات غنڈا، دھونسیا، مردم آزار، بھاڑے کا غنڈا، جھگڑالو، دنگئی، فسادی، مار پیٹ پر اترانے والا، بددیانتی کا کاروبار کرنے والا۔ استفتاء استصواب، استصواب رائے عامہ (referendem)، رائے شماری (plebiscite)، سرکاری قانونی رائے کیلئے درخواست، صلاح مشورہ، مشاورت، مشورہ کرنا۔ استفتاء الشعب یا استفتاء شعبی استصواب رائے عامہ (plebisute, referendem) مفتی فتوی دینے والا۔

فت: فتّ - فتًا القفة ٹوکری کی چیزیں بکھیرنا۔ ـ الحار بالبارد گرم کو ٹھنڈا کرنا، جوش کم کردینا۔ انفتّ العود لکڑی کا ٹوٹنا۔ ـ الرجل شکستہ دل ہونا۔ تمر مفتفرق کھجوریں۔ المفتة زیادتی، کثرت۔

فثا: فثا - فثوًا و فثوءًا القدر ہانڈی کا جوش ٹھنڈا کرنا۔ ـ الغضب غصے کی تیزی کم کرنا۔ ـ الشیء عنه کو سے روکنا۔ افثا تھکنا، سست ہونا۔ الحرّ گرمی کا گھٹ جانا، کم ہو جانا۔ ـ بالمکان میں اقامت کرنا، ٹھہرنا۔ انفثأ الحرّ گرمی کا کم ہو جانا۔

فثأ - فثأ کو بجھانا (جیسے بھوک، پیاس وغیرہ)

فثج - فثجا الشیء کو کم کرنا۔ ـ الماء الحار بالبارد ٹھنڈے پانی سے گرم پانی کی گرمی کم کرنا۔ و فثج و افثج و افتثج بوجھل ہونا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ بحرٌ لا یُفثَج: فلاں بحر ناپیدا کنار ہے۔ الفاثج (فا) جمع فواثج حاملہ اونٹنی۔

فثر: الفاثور سنگ مرمر کی میز، آفتاب کی ٹکیہ، فرش، بڑا پیالہ، شراب کا برتن، جاسوس۔

فثغ: فثغ - فثغا راسه کا سر پھوڑنا۔

فج: فجّ - فجًّا ما بین رجلیه دونوں پیروں کو کشادہ اور دور کرنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: فجّ الشیء فانفجّ اس نے چیز کو پھاڑا تو وہ پھٹ گئی۔ ـت الناقة للحلب اونٹنی کا دودھ دوہنے میں ٹانگیں پھیلانا۔ ـ القوس کمان کھینچنا۔ فجج چلنے میں ٹانگوں کا درمیان کشادہ ہونا۔ صفت: أفجّ م فجّاء جمع فجّ: افجّ ما بین رجلیه ٹانگیں چوڑی کرنا صفت: مُفجّ۔ فی المشی جلدی چلنا، دو پہاڑوں کے درمیان چوڑے راستہ پر چلنا۔ ـ الأرض بالمحرات زمین پر ہل چلانا۔ تفاجّ ٹانگیں پھیلا کر چلنا۔ انفجّ ـت القوس کمان کا کھنچ جانا۔ افتجّ الرجل درۃ کوہ میں چلنا، دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ پر چلنا۔ الفجاج دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ، درہ۔ الفجّ جمع فجاج دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ۔ الفجة دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی۔ الإفجیج وسیع وادی، تنگ اور گہری وادی۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ یمشی مُفاجًّا: فلاں شخص اپنی ٹانگیں پھیلا کر چلتا ہے۔

۲۔ الفجّ و الفجاجة من الفواکه و غیرها کچا میوہ وغیرہ۔ الفجّ نیز کاہل و سست لوگ جن کی صحبت کو ناپسند کیا جائے۔

فجّ - فجًّا رجلیه ٹانگیں پھیلانا۔ افجّ ٹانگیں بھرنا، جلدی چلنا۔ فجّ جمع فجاج کشادہ راستہ، دو پہاڑوں کے درمیان سڑک۔ من کل فجّ عمیق یا من کل فجّ و صوب سب طرف سے، سب جگہوں سے۔ فجّ کچا، ہرا (پھل)، غیر مہذب (گفتگو)۔

فجا: فجا - و فجیء - فجا و فجاة و فجاءة و فاجأ مفاجأة و افتجأ افتجاءً الرجل اچانک ٹوٹ پڑنا، کے پاس رات کو بے خبری میں آنا، پر سبقت کرنا۔ الفجاءة (مص) اچانک۔ حرف المفاجاة اذا ہے۔ جیسے خرجت فاذا الاسد بالباب اس کو اذا الفجائية بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسم ابتداء کی وجہ سے مرفوع اور خبر محذوف ہوتی ہے اور عموماً یہ خبر "موجود" ہوتی ہے۔

فجأ - و فجیء - فجأ و فجأة و فجاءة و فاجأه کے پاس اچانک آجانا، پر غیر متوقع طور پر آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، کا اچانک سامنا کرنا یا غیر متوقع طور پر کے سامنے آجانا، کو بے خبری میں آلینا۔ ـ ہ ب کو سے حیران کردینا۔ ـ ہ پر حملہ کرنا۔ فجأة و فجاءة یکایک، اچانک، غیر متوقع طور پر، بے خبری میں، ناگہاں۔ فجائی اچانک، غیر متوقع، حیرت انگیز۔ مفاجأة جمع مفاجآت اچنبھا، خلاف توقع بات، تعجب، حیرت، بے خبری میں جالینا۔ فاجئ: اچانک غیر متوقع، حیرت انگیز۔ مفاجئ: اچانک، یکلخت، یکایک، غیر متوقع، حیرت انگیز۔ مفاجئات: حیرت انگیز واقعات، حیرتیں، خلاف توقع باتیں۔

فجر: فجر - فجرا الماء پانی (کا راستہ کھول کر) اسے جاری کرنا اور بہانا۔ ـ القناة نالی نکالنا۔ ـ الله الفجر اللہ تعالیٰ کا صبح کردینا۔ فجّر الماء زور سے پانی بہانا، جاری کرنا۔ تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔ ـ الینبوع چشمہ جاری کرنا۔ انفجر فجر میں داخل ہونا۔ تفجر الماء پانی کا جاری ہونا۔ ـ الصبح صبح کا روشن ہونا۔ انفجر الماء پانی کا جاری ہونا۔ ـ الصبح صبح کا روشن ہونا۔ ـ عنه اللیل سے رات کا ختم ہوجانا۔ ـ علیهم العدو

پر دشمن کا کثرت سے اور ہر طرف سے آجانا۔

الفَجْرُ: صبح کی روشنی۔ کہا جاتا ہے:
طریقٌ فَجْرٌ (مص): کھلا ہوا صاف راستہ۔
الفَجْرَة جمع فُجَر: پانی بہنے کی جگہ۔ وادی کا وہ وسیع و عریض حصہ جس میں پانی بہتا ہو۔
من الوادی: دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستے۔
المِفجار: پانی بہنے کی جگہ۔
السُفجَرة و المُنفَجَر: ریگستان میں بنا ہوا راستہ۔
مُنفَجَرُ الرَمَل

۲۔ فَجَرَ ـ فُجُوراً عن الحق: حق سے تجاوز کرنا۔
عن سرجه: زین سے ایک طرف جھک جانا۔
فَجْراً و فُجُوراً: جھوٹ بولنا، زنا کرنا، گناہ کرنا۔
امرهم: کا معاملہ بگڑ جانا، خراب ہو جانا۔
ـ فَجَرَ فلاناً: کی نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا، کو جھٹلانا۔
فَجَّرَ الرجل: کی بدکاری کی طرف نسبت کرنا۔
فاجَرَ: عورت سے زنا کرنا۔
فِجاراً و مُفاجرةً المراة
أفْجَرَ: حق سے تجاوز کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، کفر کرنا۔
ـ فلاناً: کو فاجر پانا۔
تَفاجَرَ القومُ: گناہوں میں منہمک ہونا۔
اِفْتَجَرَ فی الکلام: بات گھڑ لینا، بناوٹی بات کہنا۔
الفَجْرَةُ: فجر کا اسم مرۃ بمعنی ایک بار۔ کہا جاتا ہے:
رَکِبَ فَجْرَةً: وہ جھوٹ پر سوار ہوا یعنی جھوٹ بات بنائی۔ تانیث اور علمیت کی وجہ سے غیر متصرف ہے۔
فَجارِ: الفجور کا اسم ہے اور معرفہ ہے۔ جیسے:
فحملتُ برّةَ واحتملتَ فجارِ
بَرّۃ بِرّ سے اسم ہے۔ عورت کو فجارِ کہا جاتا ہے یعنی اے فاجرہ۔ اور صرف نداء ہی کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ (میں نیکی لے کر آیا اور تو گناہ)۔
الفاجر (فا) جمع فاجرون و فَجَرَة و فُجّار: زانی، گناہوں کے پیچھے چلنے والا، جادوگر۔
الفاجِرَة: فاجر کا مونث۔ کہا جاتا ہے:
یمینٌ فاجِرَةٌ: جھوٹی قسم۔
الفاجُور: زانی، گناہوں میں منہمک۔
الفَجُور جمع فُجُر: زانیہ، زانی، گناہوں میں منہمک۔

۳۔ فَجَرَ ـ فَجْراً و فُجُوراً: کمزور نگاہ والا ہونا۔

۴۔ فَجَرَ ـ فَجْراً و فُجُوراً من مرضه: صحیح و تندرست ہونا۔

۵۔ فَجَرَ ـ فَجْراً: فیاضی و سخاوت کرنا۔
أفْجَرَ: مال کثیر لانا۔
تَفَجَّرَ و انْفَجَرَ بالعطاء: فیاضی و سخاوت کرنا۔
الفَجَر: سخاوت، بخشش، عطیہ، بھلائی، مال، کثرتِ مال۔

فَجَرَ ـُ ۵: (زمین) کو پھاڑنا، چیرنا، تباہ کرنا، (دبی ہوئی چیز) کو کھود کر نکالنا۔
ـ فُجُوراً: گناہ کرنا، عیاشی کرنا، بدچلنی کی زندگی بسر کرنا، عیاشیوں میں منہمک ہونا، بدکاری کرنا، زنا کرنا۔
فَجَّرَ ۵: (پانی وغیرہ کیلئے) راستہ بنانا، میں پانی نکلنے کا راستہ بنانا۔
(پانی وغیرہ) کو بہانا، جاری کرنا۔ کو پھاڑنا، چیرنا۔ (کو بھک سے اڑانا، کا دھماکہ کرنا۔
بدکاری کرنا، زنا کرنا۔
أفْجَرَ
تَفَجَّرَ: زور سے نکلنا، پھوٹ نکلنا، یکایک نکلنا، پھیل جانا، پھوٹ پڑنا، توڑ کر نکل جانا۔
۲۔ اِنْفَجَرَ بمعنی تَفَجَّرَ نیز اِنْفَجَرَ: دھماکے سے پھٹنا، پھوٹنا، خارج ہونا، پھٹنا، پھوٹنا، پھٹ کر اڑ جانا، توڑ (کر) نکلنا، بھک سے اڑ جانا، زور سے پھٹنا، دھماکے کے ساتھ اڑنا۔ میں بکثرت ہونا۔
ـ علی: پر اچانک آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، حملہ کرنا، پر جھپٹنا۔
فَجْر: سویرا، تڑکا، طلوع صبح، طلوع سحر، فجر، صبح کا جھٹپٹا، (مجازاً) آغاز، شروع، ابتداء۔ (مونث) فجر کی نماز۔
فُجُور: فحاشی، بداخلاقی، بے انصافی، فسق و فجور، سیاہ کاری، بدکاری، عیاشی، آوارگی، اوباشی، لفنگا پن، آوارگی اور بدچلنی کی زندگی، زنا، حرامکاری، ناجائز جنسی تعلق، زن غیر منکوحہ سے زنا، غیر شادی شدہ عورت سے برضا مجامعت، زنا کاری۔
انفجار جمع انفجارات: پھوٹ پڑنا، پھٹنا، زمین کے اندر سے اوپر آجانا، زور سے پھٹنا، دھماکا، انفلاق، انشقاق۔
مواد الانفجار: دھماکے سے پھٹنے والے، بھک سے اڑ جانے والے مادے۔
اِنْفِجاری: دھماکے سے اڑ جانے والا، دھماکے کے ساتھ پھٹنے والا، بارود سے اڑانے والا۔
مُتَفَجِّر بمعنی انفجاری۔ مُنفَجِر بمعنی انفجاری
فاجِر: رند مشرب، آوارہ، بدکار، لچا، شہدا، آزادرو، فاسق، فاجر، عیاش، شہوت پرست، تماش بین، زانی، زناکار، جھوٹا، گستاخ، بے تمیز، بدتہذیب، بے شرم، بے حیا، بے عزت مونث:
فاجِرَہ جمع فواجر: زانیہ۔ کسبی، رنڈی، فاحشہ، چھنال، پچی، طوائف، بیسوا۔

فجس: فَجَسَ ـ فَجْساً: تکبر کرنا، شرارت گھڑنا۔
فلاناً: کو مغلوب کرنا۔
أفْجَسَ: باطل پر فخر کرنا۔
تَفَجَّسَ علیه: پر تکبر کرنا، پر بڑائی ظاہر کرنا۔

فجع: ۱۔ فَجَعَ ـ فَجْعاً و فَجَّعَ ۵: کو دردمند کرنا، (اس کے اہل اور مال سے محروم کرکے)۔ کہا جاتا ہے:
فُجِعَ فی ماله و بماله: اسے مال کی وجہ سے تکلیف ہوئی۔
أفْجَعَتْهُ المصیبةُ: مصیبت کا آدمی کو اس کی محبوب چیزوں سے محروم کر کے تکلیف میں مبتلا کرنا۔
تَفَجَّعَ: دردمند ہونا۔
الفاجِع (فا): انسان کو لاحق ہونے والا بڑا غم۔ جدائی کا کوا۔ کہا جاتا ہے:
امرأةٌ فاجِعٌ: دردمند عورت۔
رجلٌ فاجعٌ: افسوس کرنے والا، سراسیمہ۔
موتٌ فاجِعٌ: لوگوں پر مصائب لانے والی موت۔
الفاجِعَة جمع فواجع: شدید حادثہ، مصیبت، ڈرامہ، ٹریجڈی، حزنیہ، المیہ۔
موتٌ فَجُوع: لوگوں پر مصیبت لانے والی موت۔
الفَجِیعَة جمع فجائع: مصیبت۔
رجلٌ مُتَفَجِّعٌ: افسوس کرنے والا۔ الامر اتیمہ۔

۲۔ اِنْفَجَعَ: پیٹو، پرخور، کھاؤ ہونا صفت:
مَفْجُوع (عام زبان میں)۔
فُجْعان: اسم الفُجْعَة

فَجَعَ ـ فَجْعاً و فَجَّعَ ۵: کے سر پر مصیبت اور سخت غم مسلط کرنا، کو ایذا دینا، دکھ پہنچانا، تکلیف میں ڈالنا، مغموم کرنا۔
ـ ۵ ب: کو کسی سے محروم کر کے سخت غمزدہ کرنا۔
فُجِعَ بولده: وہ اپنے بیٹے کی موت سے سخت متاثر ہوا۔
فَجَّعَ: کو سخت اذیت دینا، کو سخت کوفت پہنچانا، تنگ کرنا، دق کرنا، مغموم کرنا، رنج پہنچانا، رنجیدہ کرنا، دکھ پہنچانا۔
تَفَجَّعَ: دردناک طور پر متاثر ہونا یا ہو جانا، ذہنی طور پر مغموم ہونا۔
فَجْعَة: پرخوری، بسیار خوری۔ پرخوری، بسیار خوری۔
فَجاعَة: تکلیف دہ، دردناک، المناک، پرملال، صبر آزما۔
فَجُوع: حادثہ، مصیبت، آفت، سیہ بختی، سانحہ جمع
فَجِیعَة:
فَجائع۔ فَجْعان: بہت بھوکا، ندیدہ، بڑا لالچی، پیٹو، کھاؤ، پرخور، بھوک سے بے حال۔
تَفَجُّع: سوہان روح، روحانی اذیت، ذہنی تکلیف، ایذا، دکھ، تکلیف، سخت غم۔
فاجِع: دردناک، تکلیف دہ، الم ناک، پرملال، صبر آزما، رنج دہ۔
فاجِعَة جمع فَواجِع: حادثہ، مصیبت، آفت، سیہ بختی، سانحہ، بلائے ناگہانی، ڈرامہ، المیہ، حزنیہ، ٹریجڈی۔
مُفْجِعات: خوف، دہشتیں، خوف زدہ کرنے والی چیزیں۔

فجل: فَجَلَ ـ فَجْلاً و فَجِلَ: ڈھیلا اور موٹا ہونا۔
فَجَلَ الشیءَ: کو چوڑا کرنا۔
فَجَّلَ الشیءَ: کو گھڑنا، ایجاد کرنا۔
الأَفْجَل: جو پھیلنے والا، جو اری۔
الاَمر
الأَفْجَل: وہ شخص جس (فا) کے دونوں قدموں کے درمیان دوری ہو۔
الفُجْل و الفِجْل: مولی (ایک ترکاری)۔
واحد فُجْلَة (ن): مولی فروش۔
الفَجّال:

فجم: فَجِمَ ـ فَجَماً: موٹے جبڑے والا ہونا۔ صفت:
أفْجَم
فَجَمَ ـ فَجْماً ۵: (چاقو) کو کھنڈا کرنا۔ میں دندانے ڈالنا، کھنڈا ہونا۔
تَفَجَّمَ و اِنْفَجَمَ: دندانے دار ہونا، (عام زبان میں)۔
تَفَجَّمَ و اِنْفَجَمَ الوادی: وادی کا کشادہ ہونا۔
فُجْمَة الوادی و فُجْمَةُ الوادی: وادی کی کشادہ جگہ۔
سداب کھانے میں مداومت کرنا۔
فجن: أفْجَنَ:

السفیجن (ن): سُداب (ایک قسم کی نبات) اسے سَذاب بھی کہتے ہیں (یونانی لفظ)۔

فجو: فَجَا ـفَجْوًا الباب: دروازہ کھولنا۔ ـ القوسَ: کمان کھینچنا۔ فَجِیَ ـفَجًا: پنڈلیوں یا پیروں کے درمیان دوری کرنا۔ صفت: اَفْجَی مونث فَجْوَاء۔ ـ ت القوسُ: کمان کا کھنچا ہوا ہونا۔ ـ ت الناقةُ: اونٹنی کا بڑے پیٹ والی ہونا۔ تَفَاجیَ: کشادہ جگہ ہونا۔ اِنفجیَ البابُ: دروازہ کھلنا۔ ـ القومُ عن فلانٍ: سے علیحدہ ہونا، ہٹ جانا۔ ـ ت القوسُ: کمان کھنچ جانا۔ الفَجْوة جمع فَجَوات و فِجَاء: دو چیزوں کے درمیان کشادگی، گھر کا صحن، کشادہ زمین۔ الفَجْوَاء: اَفْجَی کا مونث، کشادہ زمین۔

◯ فَجْوة جمع فَجَوات و فِجَاء: شگاف، سوراخ، درز، موکھا، روشن دان، روزن، رخنہ، افقی لوح قبر۔

فجی: فَجِیَ ـفَجًی: پنڈلیوں یا پاؤں کے درمیان دوری کرنا۔ فَجَّی تَفْجِیَةً الشیءَ: کو ظاہر کرنا۔ ـ الشیءَ عنه: کو سے دور کرنا، علیحدہ کرنا۔ اَفْجَی اِفْجَاءً الرجلُ: بال بچوں پر خرچ میں وسعت کرنا۔

فحّ: ۱۔ فَحَّ ـفَحًّا و فَحِیحًا و تَفْحَاحًا النائمُ: سونے والے کا خراٹے لینا۔ ـ ت الافعی: سانپ کا پھنکارنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: فَحَّت الرائحةُ: خوشبو کا پھیلنا۔ الفُحُح: پھنکارنے والے سانپ۔ فُحَّةُ الفُلفُل: مرچ کی تیزی۔ الفَحِیح (مص) فَحِیحُ الافعی: سانپ کی پھنکار۔

۲۔ فَحْفَحَ: نیند میں خراٹے لینا، آواز بیٹھ جانا، گلوگرفتہ ہونا۔ الفحفاح م فحفاحة: بیٹھی ہوئی آواز والا، گلو گرفتہ بہت بولنے والا۔

◯ فَحَّ ـفَحًّا و فحیحًا: (سانپ کا) پھنکارنا۔ (طوفان کا) سیٹیاں بجانا۔

فحج: ۱۔ فَحَجَ ـفَحْجًا: تکبر کرنا۔

۲۔ فَحِجَ ـفَحَجًا و فَحْجَةً فی مشیته: قدم کے اگلے حصے کو قریب اور ایڑیوں کو دور کرنا، صفت: اَفْحَج۔ فَحَّجَ فی مشیته: قدم کے اگلے حصے کو قریب اور ایڑیوں کو دور کرنا۔ ـــ رِجْلَیْهِ: ٹانگوں کو پھیلانا۔ اَفْحَجَ عن الامر: سے رکنا، ہٹ جانا۔ تَفَحَّجَ الرجلُ: ٹانگوں کو پھیلانا۔ اِنْفَحَجَ ت ساقاهُ: کی ٹانگوں کا دور دور ہونا۔

فحس: فَحَسَ ـفَحْسًا الشیءَ من الماء وغیرہ: کسی چیز کو ہاتھ میں لے کر زبان سے چاٹنا۔

فحش: ۱۔ فَحُشَ ـفُحْشًا و فَحَاشَةَ الامرُ: برا ہونا۔ ـــ ت المرأةُ: عورت کا قبیح ہونا، بوڑھی ہونا۔ ـ فَحَّشَ بِهِ: پر طعن و تشنیع کرنا۔ اَفْحَشَ: بری بات کہنا، برا کام کرنا۔ تَفَحَّشَ علیهم بلسانِهِ: سے بدکلامی کرنا، کو گالیاں سنانا۔ تفاحَشَ: بری بات کہنا، برا کام کرنا۔ ـــ الامرُ: قباحت میں زیادہ ہونا۔ الفُحْش (مص): قبیح قول یا فعل۔ الفَاحِش مونث فَاحِشَة: بدصورت قبیح، بدخلق۔ کہا جاتا ہے: غبنٌ فاحِش: پرفریب کھیل، ناقابل برداشت فراڈ۔ رجُلٌ فاحِشٌ: قول اور جواب میں حد سے گزرنے والا۔ مونث فاحشة۔ الفاحِشَة جمع فوَاحِش و الفَحشاء: زنا، بہت سخت قبیح گناہ۔ الفَحَّاش م فَحّاشَة: فاحش کا اسم مبالغہ۔

۲۔ اَفْحَشَ الرجلُ: بخل کرنا۔ الفاحِش م فاحِشَة: بہت بخیل۔

◯ فَحُشَ ـفُحْشًا: ننگ انسانیت ہونا، حد سے زیادہ ہونا، بہت زیادہ ہونا، بے انداز ہونا، نہایت قابل نفرت ہونا، سخت نفرت انگیز ہونا، کریہ ہونا، خبیث ہونا، نابکار ہونا، بے درد ہونا، فحش ہونا، ناشائستہ ہونا، اخلاق سے گرا ہوا ہونا، نامناسب ہونا، ناموزوں ہونا، برا ہونا، خراب ہونا، بے شرم ہونا، بے حیا ہونا، ڈھیٹ ہونا۔ اَفْحَشَ: ناشائستہ زبان استعمال کرنا، بد ذاتیاں کرنا۔ تفاحَش بمعنی فَحُشَ و اَفْحَشَ۔ فُحْش: ننگ انسانیت ہونا، کراہت، ظلم، بے دردی، سفاکی، بدذاتی، فاشی، ناشائستگی، فحش، نازیبائی، ناشائستہ زبان۔ فَحشاء: ننگ انسانیت ہونا، نفرت، استکراہ، ظلم، بے دردی، بدذاتی، سفاکی، برا کام، جرم، زنا، بدکاری، زناکاری۔ فَحَّاش: ناشائستہ، فحش، اخلاق سے گرا ہوا، بدکار، عیاش، تماش بین، اوباش، شہوت پرست، بولنے اور عمل میں بے شرم، بے حیا۔ تالیف فَحَّاش: فحاشی، طوائفی ادب porno graphy۔ تفاحُش: ننگ انسانیت ہونا، نفرت انگیزی، مکروہ پن۔ فاحِش: ننگ انسانیت (شخص) غیر معتدل، بہت زیادہ، بے اندازہ، بے حد (گراں)، بہت (مہنگا)، بیہودہ، لغو، بے سروپا، خلاف عقل، غیر موزوں، غیر مناسب، خلاف فطرت، بے معنی، نامعقول، مکروہ، قابل نفرت، غلیظ، ناپاک، کریہ، ناگوار، گھناؤنا، نفرت انگیز، ظالم، نابکار، خبیث، بدذات، نامرغوب، انمل، بے جوڑ، مخالف، متضاد، ناپسندیدہ، برگشتہ کرنے والا، نفرت انگیز، ناشائستہ، فحش، نازیبا، سوقیانہ، بے حیائی کا، بے شرمی کا، خلاف تہذیب، بدزبان، بدصورت، کمینہ یا پاجی پن کا، بے ادب، بے تمیز، گستاخ، شوخ چشم۔ فاحِشَة: کسبی، رنڈی، کنجی، چھنال فاحشہ عورت، طوائف۔ جمع فوَاحِش: انسانیت سوز عمل، ظلم، نابکاری، خبث، خباثت، برا کام، جرم، زناکاری، بدکاری، فسق، حرامکاری، بدکاری، زنا۔ مُفْحِشَة: کسبی، رنڈی، کنجنی، طوائف۔

فحص: ۱۔ فَحَصَ ـفَحْصًا عنه: کی تفتیش کرنا، کھود کریدنا۔ فاحَصَ فِحَاصًا و مُفَاحَصَةً ہُ: ایک دوسرے کے عیوب اور بھیدوں کی تلاش و جستجو کرنا۔ تَفَحَّصَ و افْتَحَصَ عنه: کی کھود کرید کرنا۔ الفَحْص (مص) جمع فُحُوص: امتحان، آزمانا۔ الفَحْصَة: فحص کا اسم مرة بمعنی ایک دفعہ امتحان لینا۔ الفَحَّاص: بہت تلاش و جستجو کرنے والا۔ الفَحِیص: ساتھی کے عیوب اور بھیدوں کو معلوم کرنے میں لگا رہنے والا۔

۲۔ فَحَصَ ـفَحْصًا المطرُ الترابَ: بارش کا مٹی کو الٹ پلٹ کر دینا۔ ـــ الترابَ: مٹی کھودنا۔ ـــ برِجْلِهِ: پاؤں سے کھودنا، کریدنا۔ ـ للخبزة: روٹی کے لئے آگ میں جگہ بنانا۔ فَحَّصَ و افْحَصَ ہُ عنه: کو سے دور کرنا۔ الفَحْص جمع فُحُوص: ہر رہنے کی جگہ۔ المَفْحَص جمع مَفَاحِص و الاُفْحُوص جمع افَاحِیص: وہ جگہ جو سنگخوار انڈے دینے کے لئے تلاش کرے۔ کہا جاتا ہے: لیس له مَفْحَصُ قطاة: اس کے لئے سنگخوار کے انڈے دینے جتنی جگہ بھی نہیں۔

۳۔ فَحَصَ ـفَحْصًا الظبیُ: ہرن کا تیز دوڑنا۔

۴۔ الفَحْصَة: ٹھوڑی کا گڑھا، چاہ زنخدان، چاہ ذقن۔

◯ فَحَصَ ـفَحْصًا ہ: زمین کی کھود کرید کرنا۔ ـ ہُ: کا امتحان لینا۔ ـــ ہ: کا طبی طور پر بغور مشاہدہ کرنا۔ ـــ ہ/ہ: کو جانچنا، کی آزمائش کرنا، کا تجربہ کرنا۔ ـــ ہ: کی تفتیش کرنا۔ ـ ہ/ہ: کی جانچ پڑتال کرنا۔ ـ عن: کو ڈھونڈنا، کی تلاش کرنا، کے بارے میں پوچھنا، کی تفتیش کرنا، کے بارے میں معلومات طلب کرنا۔ تَفَحَّصَ عن: کو ڈھونڈنا، کی تلاش کرنا، کے بارے میں پوچھنا، کی تفتیش کرنا، کے بارے میں معلومات طلب کرنا۔ ـــ ہ/ہ: کا طبی معائنہ کرنا۔ فَحْص جمع فُحُوص: آزمائش، امتحان، (طبی یا مدرسہ کا) طبی معائنہ، تفتیش، جانچ پڑتال، تلاش، تحقیقات، پوچھنا، دریافت کرنا۔ اُفْحُوص جمع اَفَاحِیص: گڑھا جس میں پرندہ انڈے دیتا ہے، گھونسلا بنانے کی جگہ، نسل کشی کی جگہ۔

فحل: ۱۔ فَحَلَ ـفَحْلًا و افْتَحَلَ ابلَهُ فحلًا کریمًا: جفتی کے لئے عمدہ سانڈ ڈھونڈنا۔ تَفَحَّلَ: سانڈ کے

مشابہ ہونا۔ الفَحْل جمع فُحُول و اَفْحُل و فِحَال و فِحَالة و فُحُوله (ح): ہر حیوان کا نر، سانڈ۔ فُحُول الشعراء: فضیلت رکھنے والے شعراء، ہجو کرنے میں غالب ہونے والے شعراء۔ الفَحْلة من النساء: ایسے اخلاق والی جو عورت جنس کے لائق نہ ہو، تیز زبان عورت۔ الفِحْلة و الفُحُولة و الفِحالة: مردانگی۔ الفَحِيل: نر، سانڈ، مردانگی کا پیکر۔ فَحْل فَحِيل: شریف نسل مرد۔

۲۔ تَفَحَّل الشجرُ: درخت کا بے پھل ہونا۔ اِسْتَفْحَلَت النخلةُ: درخت خرما کا نر کھجور جیسا ہونا۔ الفُحْل والفُحَّال جمع فَحَاحِيل: نر کھجور۔

۳۔ اِسْتَفْحَلَ الامرُ: بڑا ہونا، سنگین ہونا۔

اِسْتَفْحَل علی: (معاملہ کا) کے لئے بھیانک ہونا، ڈراؤنا ہونا، تکلیف دہ ہونا، نہایت اہم ہونا، بھاری ہونا، مخدوش ہونا، مشکل ہونا۔ استفحل: بے قابو ہو جانا، حد سے زیادہ ہو جانا (نقصان کا)، نا قابل تلافی ہونا۔ فَحْل جمع فُحُول: (بڑے جانوروں کا) نر، نسل کشی والا گھوڑا، ممتاز شخصیت، مشہور شخصیت، ستارہ (نامی شخص) عظیم فنکار، شاندار (شخص یا شے)۔ الشعراء الفُحُول: عظیم شعراء۔ فُحُولة: فضیلت، شرف، برتری، تفوق (کا) مکمل یا کامل نمونہ، کمال۔ اِستفحال: دہشت ناکی، ہولناکی، شدت، اہمیت، متانت، تشویشناکی، مشکل۔ مُسْتَفْحِل: خوفناک، ہولناک، دہشت ناک، سنگین، تشویشناک، اہم، مشکل، حد سے زیادہ، نا قابل برداشت، بہت زور دار، قابو سے باہر، خطرناک طور پر پھیلنے والا۔

فحم: ۱۔ فَحَمَ -فَحْمًا: جواب نہ دے سکنا۔ فَحِمَ - و فُحِمَ فَحْماً و فُحاماً و فُحُوماً الصبیُّ: بچے کی آواز روتے روتے بند ہو جانا۔ اَفْحَمَ هٗ: کو دلیل دے کر خاموش کرنا۔ کہا جاتا ہے: هاجاهُ فَاَفْحَمَهٗ: اس نے اس کا ہجو میں مقابلہ کیا تو اس نے اسے خاموش کر دیا۔ — الهمُّ الشاعِرَ: غم کا شاعر کو شعر کہنے سے منع کرنا۔ اَفْحَمَ الصبیُّ: بچہ کی آواز کا روتے روتے بند ہو جانا۔ اَلْمُفْحُوم: جواب نہ دے سکنے والا۔ المُفْحَم فا۔ جوابٌ مُفْحِمٌ: مسکت جواب۔ المُفْحَم (مفع): بے زبان، گونگا، شعر نہ کہہ سکنے والا۔ کہا جاتا ہے: وجدهُ مُفْحَماً: اس نے اسے شعر نہ کہہ سکنے والا پایا۔

۲۔ فَحَمَ -فُحُومات البئرُ: کنویں کے پانی کا ٹھہرنا۔ الفاحِم (فا)۔ ماءٌ فاحِمٌ: ٹھہرا ہوا پانی۔

۳۔ فَحُمَ -فُحُوماً و فُحُومَةً: کالا ہونا۔ فَحَّمَ الشیءَ: کو کالا کرنا۔ اَفْحَمَ الرجُلُ: عشاء کے وقت کی تاریکی میں داخل ہونا۔ الفاحِم: کالا۔ الفَحْم و الفَحَم: کوئلہ۔ الفَحْمَة جمع فِحَام و فُحُوم: کوئلے کا ٹکڑا۔ فحمةُ اللیل: رات کی سخت تاریکی۔ الفَحَّام جمع فَحَّامة: کوئلہ فروش۔ الفَحَّامَة: اٹلی کی ایک جماعت جس کے ارکان ایک خفیہ سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، carbonaro، فری میسن freemason۔ رجُل فَحَّام: ملحد، بے دین۔ الفُحُومَة: سیاہی۔ الفَحِيم: کوئلہ، کالا۔ (ك): دیکھئے الکربون (carbon)۔ المُفَحَّم: گاڑیوں کے انجنوں میں وہ جگہ جہاں ایندھن سے ہوا کا امتزاج ہوتا ہے (جیسے کار کے انجن میں)۔ المَفْحَمَة: کوئلوں کی جگہ، وہ جگہ جہاں کوئلے بنائے جاتے ہیں۔ عام لوگ اسے مشحرہ کہتے ہیں (یہ لفظ سریانی الاصل ہے)۔

فَحُمَ -فُحُوماً و فُحُومَةً: کالا ہونا یا ہو جانا۔ فَحَمَ -فَحْمًا: گم سم ہونا، دم بخود ہونا، جواب نہ دے سکنا۔ فَحَّمَ ہ/ ﮦ: کو (لکڑی کے کوئلے سے) کالا کرنا، کو کالا بنانا۔ — ﮦ: کو جلا کر کوئلہ بنانا، کو کاربن بنانا، کو لکڑی کے کوئلہ کی شکل میں تبدیل کرنا۔ اَفْحَمَ ہ: کو گم سم کرنا، کو دم بخود کرنا، کے اوسان خطا کرنا، کو دہشت زدہ کرنا، کو دلائل سے خاموش کرنا، اکھڑپن سے کسی کی بھوک اڑا دینا، کو چلتا کرنا (to give some one the brush off)۔ فَحْم (واحد فَحْمة) کوئلہ، کوئلے، (لکڑی کا) کوئلہ، کوئلے جمع فَحُومات: کوئلے، کوئلوں کی قسمیں۔ فحمٌ حَجَرِی: پتھر کا کوئلہ۔ فحم حطب: لکڑی کا کوئلہ۔ فحم قوالب: کوئلے کے چورے اور مٹی سے بنی ہوئی اینٹیں۔ فحم کُوك: کوک (coke)۔ فَحْمَة جمع فحمات: کوئلے کا ڈلا یا ڈلی۔ فحمةُ اللیل: گہری تاریک رات جمع فِحام و فُحُوم۔ فَحْمی: سیاہی۔ فَحِيم: کالا، کوئلے جیسا کالا۔ فَحِيم: کالا، سیاہ۔ فَحَّام: کوئلہ کا تاجر، کوئلہ فروش، کان سے کوئلہ نکالنے والا، کان کن۔ فاحِم: کالا، سیاہ۔ اسود فاحم یا فاحمُ السَّواد (مونث): کوئلہ جیسا کالا، کالا سیاہ، قیر گوں، کالا بھجنگ۔

فحو: فَحَا -فَحْوًا و فَحَّی بکلامه إلی کذا: اپنے کلام سے کسی مضمون کی طرف اشارہ کرنا۔ الفَحَا والفِحَا جمع اَفْحاء: مسالہ یا خشک مسالہ۔ الفَحْوَی و الفَحْواءُ و الفُحَوَاء من الکلام جمع فَحَاوٍ: مضمون کلام، کلام کا معنی۔

فَحْوَی یا فَحْواء: مطلب، مفہوم، معنی، ٹھیک مفہوم، اہمیت، منشاء، نیت، مدعا (خط، تقریر وغیرہ کا)۔

فخ: ۱۔ فَخَّ -فَخًّا و فَخِيخًا النائِمُ: سونے والے کا خراٹے لینا۔ — تِ الأَفعی: سانپ کا پھنکارنا۔ اِفْتَخَّ النائِمُ: سونے والے کا خراٹے لینا۔ الفَخَّة: خراٹے لینے والے کی نیند۔

۲۔ فَخَّ -فَخًّا و فَخِيخَات الرائِحَة: خوشبو کا بھڑکنا۔

۳۔ فَخَّ -فَخًّا و فَخفيفًا تْ رِجْلاهُ: کی ٹانگوں کا کمزور ہونا۔ صفت: اَفَخّ مونث فَخَّاء جمع فُخّ۔

۴۔ الفَخّ جمع فِخَاخ و فُخُوخ: جال کہا جاتا ہے: و ثب فلان من فَخّ الشیطان: اس نے گناہ سے توبہ کر لی۔ الفَخَّة: گندی عورت۔

۵۔ فَخْفَخَ فَخْفَخَةً الرجُلُ: باطل پر فخر کرنا۔ الفَخْفَخَة (مص): کاغذ یا نئے کپڑے کی کھڑکھڑاہٹ، باطل پر فخر۔

فَخّ جمع فِخَاخ و فُخُوخ: گڑھا، پھندا، دام، جال، جانور پکڑنے کا پنجرا۔

فخت: ۱۔ فَخَتَ -فَخْتًا السقفَ: چھت میں سوراخ کرنا۔ — رأسَهٗ بالسیف: کے سر پر تلوار مارنا۔ — الشیءَ: کو کاٹنا۔ — الاناءَ: برتن کھولنا۔ اِنْفَخَتَ السقفُ: چھت کا سوراخ دار ہونا۔ السفخت: چھت میں گول سوراخ۔

۲۔ فَخَتَ -فَخْتًا الرجُلُ: جھوٹ بولنا۔

۳۔ فَخَّتَتِ الفاخِتَةُ: فاختہ کا کوکو کرنا۔ تَفَخَّتَ: فاختہ کی چال چلنا، تعجب کرنا۔ الفَخْت: چاند کی روشنی یا چاند کا سایہ۔ الفاخِتَة جمع فَوَاخِت (ح): فاختہ، ایک پرندہ کا نام۔

۴۔ الفُخْت: جال۔

فَخَتَ -فَخْتًا ﮦ: میں سوراخ کرنا، چھید کرنا۔

فخج: فَخَجَ -فَخْجًا الرجُلُ: تکبر کرنا۔ فَخِجَ - فَخَجًا: جدا جدا رانوں والا ہونا۔ صفت: اَفْخَج۔

فخذ: ۱۔ فَخَذَ -فَخْذًا ﮦ: کی ران پر مارنا، کی ران کو توڑنا۔ فُخِذَ: کی ران کا توڑا جانا۔ تَفَخَّذَهٗ: کی ران پر ران رکھنا۔ الفَخْذ و الفِخْذ و الفَخِذ جمع اَفْخاذ (ع ا): ران، (یہ لفظ مونث سماعی ہے)۔

۲۔ فَخَّذَ قومَهٗ: اپنے لوگوں کو قبیلہ وار پکارنا۔ — بینهم: کو جدا جدا کرنا۔ — القوم عن فلان: کو مدد نہ دینا۔ — فلاناً: کو قبیلہ سے بھگا دینا۔ اِسْتَفْخَذَ: جھک جانا، مطیع ہو جانا۔ الفَخْذ جمع اَفْخاذ: قبیلہ (مذکر)

۳۔ تفخذ: معاملہ سے ہٹ جانا۔

فَخِذ و فَخْذ و فِخْذ (مونث) جمع اَفْخاذ:

ران (بھیڑ بکری وغیرہ کے گوشت کی) ٹانگ، قبیلہ کی ایک شاخ (چھوٹی)۔ فَخْذَۃ: (بھیڑ بکری وغیرہ کے گوشت کی) ٹانگ، ران۔ فَخِذِی و فَخْذِی: ران یا ران کی ہڈی کے متعلق۔

فخر: ا۔ فَخَرَ ۔ فَخْراً و فَخَراً و فَخَاراً و فَخَارَۃً و فِخِّیرَی و فِخِّیراء: فخر کرنا (اپنے یا اپنے اہل کی امتیازی خصوصیات، شاندار کارناموں اور عالی ظرف اعمال پر)۔ ۔ ہٗ: پر فخر میں غالب ہونا۔ ۔ ہٗ علی فلان: کو فخر میں پر فضیلت دینا۔ فَخِرَ ۔ فَخَراً و تَفَخَّرَ منہ: پر ناک چڑھانا، تکبر کرنا۔ فَخَّرَ و اَفْخَرَہٗ علی فلان: کو فخر میں فضیلت دینا۔ فَاخَرَ فِخَاراً و مُفَاخَرَۃً ہٗ: پر فخر میں غالب ہونا۔ تفاخرَ القومُ: بعض کا بعض پر فخر کرنا، ہر ایک کا اپنے اپنے مَفَاخِر پر فخر کرنا۔ اِفْتخرَ: فخر کرنا۔ الفَخر و الفَخَر (مص): فضیلت، بڑائی۔ الفُخْرَۃ: فخر۔ الفَخُور: فخر کرنے والا۔ الفخیر: فخر کرنے والا، فخر میں مغلوب۔ الفِخِّیر و الفِخِّیرَۃ: بہت فخر کرنے والا۔ (تاء مبالغہ کے لئے ہے)۔ المَفْخَرَۃ و المَفْخُرَۃ جمع مَفَاخِر: افعال حمیدہ وہ اعمال جن پر فخر کیا جائے۔

۲۔ اِسْتَفْخَرَ الشیءَ: کو قابل فخر سمجھنا، کو قابل فخر بنانا۔ الفَاخِر: ہر چیز میں کا عمدہ۔

۳۔ الفَاخُور جمع فَیَاخِیر: ایک قسم کا پھول۔ الفَاخُورَۃ: مٹی کے برتن بنانے کی جگہ (عام بول چال میں)۔ الفَخَّار (واحد فَخَّارَۃ): مٹی کے برتن، ٹھیکری پکی ہوئی مٹی۔ الفَخَّارَۃ جمع فَخَّار: مٹی کا مرتبان۔ الفَخَّارِی: کمہار، مٹی کے برتن بیچنے والا (عام لوگ اسے فاخوری کہہ کر پکارتے ہیں)۔

○ فَخَرَ ۔ فَخْراً و فَخَراً و فَخَاراً ب: پر اترانا، ڈینگ مارنا، بڑ ہانکنا، شیخی بگھارنا، پر فخر کرنا۔ فَخَرَ ۔ فَخْراً: نفرت کرنا، حقیر جاننا، حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ فَاخَرَہٗ: کے ساتھ ناموری، بزرگی وغیرہ میں مقابلہ کرنا۔ ۔ ب: پر مغرور ہونا، متکبر ہونا، پر فخر کرنا۔ ۔ ہٗ ب: کے سامنے کی ڈینگ مارنا، شیخی بگھارنا۔ تَفَخَّرَ: مغرور و متکبر ہونا۔ تَفَاخَرَ و اِفْتَخَرَ بمعنی فَخَرَ۔ اِسْتَفْخَرَ ہٗ: کو بہت عمدہ یا اعلیٰ پانا۔ فَخْر: ناموری، بزرگی، جلال، گھمنڈ، فخر، فخر و ناز، فخر و مباہات، لاف زن شاعری۔ غیرَ فخرٍ یا ولافخرَ: بغیر کسی شیخی یا فخر کے (کہتا ہوں)۔ فَخْرِی: اعزازی۔ فَخْرَۃ: ناموری، بزرگی جلال، گھمنڈ، فخر۔ فَخَار: ناموری، بزرگی، جلال گھمنڈ، فخر۔ فَخُور: لاف زن، ڈون کی لینے والا، شیخی بگھارنے والا۔ ۔ ب: پر خوش، شادان۔ فَخِیر: ڈینگیں مارنے والا، شیخی بگھارنے والا، شیخی خورہ، تحکمانہ انداز اختیار کرنے والا، دون کی لینے والا۔ فَخَّار: پکی ہوئی مٹی، مٹی کے برتن، کراکری (crockery)۔ فَاخُورَۃ: مٹی کے برتن، ظروف سازی کا کارخانہ۔ فَاخُورِی: کمہار۔ اَفْخَر: زیادہ عمدہ، زیادہ شاندار، زیادہ پرشکوہ۔ مَفْخَرَۃ جمع مَفَاخِر: فخر کی بات وغیرہ، وہ چیز جس پر گھمنڈ کیا جائے، شاندار کارنامہ، کار نمایاں، کارنامہ، پُر شکوہ خصوصیت یا خوبی۔

فخز: فَخَزَ ۔ و فَخِزَ ۔ فَخْزًا و فَخَزًا و تَفَخَّزَ: تکبر کرنا، بڑائی ظاہر کرنا۔ الفَخْز (مص): فضیلت

فخل: تَفَخَّلَ: حلم و وقار ظاہر کرنا، اپنے سب سے اچھے کپڑے پہننا۔

فخم: فَخُمَ ۔ فَخَامَۃً: موٹا ہونا، ضخیم ہونا، عظیم المرتبہ ہونا۔ فَخَّمَ ہٗ: کی تعظیم کرنا۔ ۔ الحروف فی اللفظ: حروف کو پُر پڑھنا۔ الفَخْم: عظیم المرتبہ۔ ۔ من المنطق: درست بات۔ الفُخْمِیَّۃ: بڑائی، برتری۔ الأَفْخَم: اعظم، بڑے مرتبہ والا۔

○ فَخُمَ ۔ فَخَامَۃً: شان و شوکت والا ہونا، پُر شکوہ، رعب دار ہونا، مرعوب کن ہونا، شاندار ہونا، عالیشان ہونا، بڑا ہونا، عظیم ہونا۔ فَخَّمَ ہٗ: میں شدت پیدا کرنا۔ ۔ ہٗ: کی عزت کرنا، سے احترام سے پیش آنا، کی تعظیم کرنا، کا ادب و احترام کرنا۔ ۔ ہٗ: (کسی حرف) کو زوردار بنانا، کسی لفظ کا زور دے کر تلفظ کرنا۔ فَخْم: شان و شوکت والا، پرشکوہ، رعب دار، مرعوب کن، شاندار، بہت عمدہ، بڑا، عظیم۔ فَخَامَۃ: شان و شوکت، رعب داری، مرغوب کن وضع قطع، شان و شکوہ، چمک دمک، آب و تاب، امتیاز، اونچا رتبہ، غیر بادشاہی ریاست کے سربراہ کا لقب، غیر ملکی معزز عہدے داروں کو دیا جانے والا لقب جیسے اعلیحضرت، والا حضرت، مونث علیا حضرت اور فضیلت مآب (highness, excellency) جن کے ساتھ Her یا His, I you لگایا جاتا ہے۔ صاحب الفخامۃ بھی کہا جاتا ہے۔ فخامۃ الدولۃ: جمہوریہ کے صدر کا لقب۔ فخامۃ رئیس الدولۃ۔ ان ہی معنوں میں۔ فخامۃ الرئیس: کسی غیر ملکی سربراہ مملکت کا لقب (His Excellency, the President)۔ فخامۃُ المعتمد السامی: بمعنی His excellency, the High Commissioner۔ فضیلت مآب، ہائی کمشنر۔ آلۃ

التفخیم: آلہ جہیر الصوت، بلند گو (amplifier)۔ مُفَخَّم: معزز۔ الحروف المُفَخَّمۃ: تاکیدی حروف۔

فد: ا۔ فَدَّ ۔ فَدِیدًا الطائرُ: پرندے کا پھڑ پھڑانا۔

۲۔ فَدَّ ۔ فَدِیدًا ت الإبلُ: اونٹوں کا زمین کو کھروں سے روندنا، چھیلنا، کریدنا۔ ۔ الرجُلُ: دوڑنا۔ فَدَّدَ: تکبر و غرور سے چلنا۔ الفَدَّاد جمع فَدَّادُون: متکبر، بہت روندنے والا، سینکڑوں ہزاروں اونٹوں کا مالک۔

۳۔ فَدَّ ۔ فَدِیداً الرجُلُ: آواز بلند کرنا۔ فَدَّدَ: خرید و فروخت میں چلانا۔ الفَدَّاد جمع فَدَّادُون: بہت چلانے والا۔ الفَدَّادُون: چرواہے، اونٹ والے، گائے بیل والے، کاشتکار اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ جن کی آواز کھیتی باڑی اور مویشیوں میں بلند ہوتی ہو۔ الفَدَّادَۃ: فَدَّاد کا مونث (ح): مینڈک۔

۴۔ الفَدَّادَۃ: بزدل۔

۵۔ فَدْفَدَ فَدْفَدَۃً: آواز بلند کرنا۔ الفُدْفُد و الفُدْفِد: سخت آواز والا، بلند آواز والا۔

۶۔ فَدْفَدَ فَدْفَدَۃً: بھاگتے ہوئے دوڑنا۔ الفُدْفُد و الفُدْفِد: زمین کو بہت زیادہ روندنے والا۔

۷۔ الفَدْفَد جمع فَدَافِد: سخت جگہ، بلند جگہ، جنگل۔

○ فَدْفَد جمع فَدَافِد: بنجر زمین، ویران اور غیر آباد زمین کا ایک قطعہ، بیابان، ریگستان۔

فدح: فَدَحَ ۔ فَدْحًا ہُ الامرُ او الحملُ او الدَّینُ: کو کسی معاملہ، یا سامان یا قرض کا گرانبار کرنا، یا ان کا اس پر بوجھ ہونا اور اسکو حد سے زیادہ زیر بار کرنا۔ اَفْدَحَ و اسْتَفْدَحَ الامرَ: کو بوجھل پانا۔ الفادِح: مشکل، بوجھل۔ کہا جاتا ہے: نزل بہ امرٌ فادِحٌ و رکبَہٗ دینٌ فادِحٌ: اس پر ایک گرانبار کام آپڑا اس پر قرض گرانبار ہو گیا۔ الفادِحَۃ جمع فَوَادِح: سخت مصیبت۔ فوادِحُ الدھرِ: مصائب زمانہ۔

○ فَدَحَ ۔ فَدْحًا ہٗ: پر تکلیف دہ ہونا، پر بوجھ ڈالنا، لادنا، کا دل پر بوجھ ہونا۔ اِسْتَفْدَحَ ہٗ: کو بوجھل سمجھنا، تکلیف دہ سمجھنا۔ فَدَاحَۃ: سختی جابریت، بار، گرانی، بار ہونا۔ اَفْدَح: زیادہ سخت، زیادہ گراں، زیادہ بوجھل، زیادہ بھاری، زیادہ تکلیف دہ، زیادہ، زیادہ متین و سنجیدہ، زیادہ بھاری۔ فادِحۃ جمع فَوَادِح: آفت، بلا، مصیبت، شامت، قہر، ناگہانی مصیبت۔

فدخ: فَدَخَ ۔ فَدْخًا الشیءَ: کو توڑنا۔ ۔ العودَ: تازہ لکڑی کو توڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

فدر: ا۔ فَدَرَ ۔ فَدْرًا و فُدُورًا اللحمُ المطبوخُ: پکے ہوئے گوشت کا ٹھنڈا ہونا۔ الفِدْرَۃ جمع فِدَر:

ٹھنڈے پکے ہوئے گوشت کا ٹکڑا۔ الفَادِر جمع فُدُر و فَوَادِر و فُدُور: ٹھنڈا پکا ہوا گوشت۔

۲۔ فَدَّرَ الحجارةَ: چھوٹے بڑے پتھر توڑنا۔ تفَدَّرَ الحجرُ: پتھر کا ٹوٹنا۔ الفَدِر: جلدی ٹوٹنے والی لکڑی۔ الفِدْرَة جمع فِدَر: پہاڑ کا ایک حصہ، رات کا ایک ٹکڑا۔

۳۔ الفَدَر جمع فُدُور و الفَدُور جمع فُدُر (ح): پہاڑی بکرا۔ الفَدِر: بیوقوف۔ الفُدْرَة: قوم سے علیحدہ رہنے والا اور تنہا جانے والا۔ الفُدُر: چاندی، موٹا لڑکا۔ الفادِر جمع فُدُر و فَوَادِر و فُدُور (ح): پہاڑی بکرا، علیحدہ رہنے والی اونٹنی۔ الفادِرَة: فادر کا مؤنث، پہاڑی کی چوٹی پر بڑی چٹان۔ المَفْدَرَة: وہ جگہ جہاں بہت سے پہاڑی بکرے رہتے ہوں۔

ﭫ فدر جمع فُدُور: جنگلی بکرا، مرگ، ہرن، سانبھر، نیل گائے، روہی، سابر۔

فدس: اَفْدَسَ الرجُلُ: کے گھر یا دروازہ پر مکڑیوں کا ہونا۔ الفُدْس جمع فِدَسَة (ح): مکڑی۔ الفَيْدَس: منکا۔

فدش: فَدَشَ ـ فَدْشًا راسَهُ: کا سر پھوڑ دینا۔ ـ فَدْشًا ہٗ: کو دفع کرنا، عام لوگ اسے دَفَشَـــہٗ کہتے ہیں۔ الفَدُش (ح): مادہ مکڑی، پھوہڑ، بے وقوف۔

فدع: فَدَعَ ـ فَدْعًا ہٗ: کو کچلنا، یا تھوڑا سا پھاڑنا۔ فَدِعَ ـ فَدَعًا: ٹیڑھے جوڑوں والا ہونا۔ صفت: اَفْدَع مونث فَدْعاء جمع فُدْع۔ فَدَّعَ ہٗ: کے جوڑ ٹیڑھے کر دینا۔ الفَدَع: ہاتھ یا پیروں کے جوڑوں میں کجی، جوڑوں کی کجی۔ الفَدَعَة: جوڑوں کی کجی کی جگہ۔

فدغ: فَدَغَ ـ فَدْغًا ہٗ: کو توڑنا۔ انْفَدَغَ: ٹوٹنا۔ ـ الشيءُ اليابِسُ: خشک چیز کا نرم ہونا۔ المِفْدَغ جمع مَفادِغ: توڑنے کا آلہ۔ فدغ: فَدَّغَ القطنَ: روئی دھننا۔ ـ ہٗ القطنَ: سے روئی دھنوانا۔

فدم: ۱۔ افْدَمَ ـ فَدْمًا الابريقَ و على الابريق: چھاگل پر سربند لگانا۔ فَدَّمَ و اَفْدَمَ فَمَ الآنية: برتن پر سرپوش رکھنا۔ الفِدام جمع فُدُم: چھوٹی چھلنی، یا کپڑا جو لوٹے وغیرہ کے منہ پر لوٹے میں ڈالی جانے والی چیز کو صاف کرنے کے لئے باندھا جاتا ہے۔ ــ و الفِدامَة: چھینکا جو اونٹ کے منہ پر اس لئے باندھا جاتا ہے تاکہ وہ کھا یا کاٹ نہ سکے۔ الفَدّام جمع فُدُم و الفَدّام و الفَدّامَة و الفَدُّوم: بمعنی الفِدام۔ المُفَدَّمات: قیفے والے لوٹے، مٹکے۔

۲۔ فَدُمَ ـ فُدُومَةً و فَدَامَةً: بیوقوف ہونا۔ الفَدْم م فَدْمَة جمع فِدَام: کلام میں عاجز، بیوقوف، کم سمجھ، گاڑھے خون والا۔

۳۔ الفَدْم م فَدْمَة جمع فِدَام: گہرے سرخ رنگ والا۔

ﭫ فَدَمَ ـ فَدْمًا ہٗ: (کا) منہ بند کرنا، (موکھا، روزن، سوراخ) بند کرنا۔ فَدْم جمع فِدَام: بے ڈکا، موٹا، سست، کند ذہن، غبی، بیوقوف، احمق۔

فدن: ۱۔ فَدَّنَ الإبلَ: اونٹوں کو موٹا کرنا۔

۲۔ فَدَّنَ البناءَ: عمارت کو بلند کرنا۔ الفادِن جمع فَوادِن (ب): وہ آلہ جس سے تعمیر کی درستگی کا امتحان کیا جاتا ہے۔ الفَدَن جمع افْدان: بلند عمارت۔

۳۔ فَدَّنَ الثوبَ: کپڑے کو سرخ رنگنا۔ الفَدَن جمع افْدان: سرخ رنگ۔

۴۔ الفَدّان جمع فُدُن و افْدِنَة و فَدادِين: بیلوں کی جوڑی جو ہل میں جتے ہوئے ہوں۔ الفَدّان جمع فُدُن و افْدِنة و فَدادِين: بمعنى الفَدان: کھیتی۔ ــ في المساحة: چار سو مربع قصبہ زمین (سریانی لفظ)۔ فَدّانُ الارض عند الفلاحين: اتنی زمین جو بیلوں کی جوڑی ایک دن میں کاشت کر سکے۔

ﭫ فَدَّنَ ہٗ: کو ہموار کرنا، مویشیوں کو موٹا کرنا، چارہ کھانے کیلئے تھان پر باندھ رکھنا۔ فَدّان جمع فَدادِين: بیلوں کی جوڑی جمع افْدِنَه: ایک مربع کا پیمانہ۔ جو ۴۲۰۰،۸۳۳ میٹر کے برابر ہوتا ہے (مصری پیمانہ)۔ فادِن جمع فوادِن: شاقول، شاقول کی ڈوری، ڈوری سے بندھا ہوا لٹو جس سے زیر تعمیر دیوار کی سیدھ دیکھی جاتی ہے۔ ساہول، گنیا۔

فدو: الفَدَوْكَس (ح): شیر، مضبوط مرد۔

فدی: ۱۔ فَدَى ـ فَدًى و فِدًى و فِداءً الرجُلَ من الأسر و نحوه: مال وغیرہ دے کر کسی کو قید وغیرہ سے چھڑانا صفت (اسم فاعل): فادٍ: صفت (اسم مفعول): مَفْدِي: کہا جاتا ہے: فَدَتِ المرأةُ نَفْسَها من زوجها: عورت نے مال دے کر اپنے خاوند سے طلاق لے لی اور چھٹکارا حاصل کر لیا۔ ــ و فَدَّى تَفْدِيَةً فلانًا بنفسه: کو اپنے متعلق کہنا کہ میں تم پر فدا کیا جاؤں۔ فادَى فِداءً و مُفاداةً الرجُلَ: کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا یا فدیہ دے کر چھڑانا، چھوڑنے کی درخواست کرنا۔ افْدَى إفْداءً فلانًا الاسيرَ: سے قیدی کا فدیہ قبول کرنا۔ تَفادَى تَفادِيًا القومُ: ایک دوسرے پر فدا ہونا، بعض کا بعض کے ذریعے بچنا۔ ــ الرجُلُ من كذا: سے پرہیز کرنا، اور یکسو ہونا۔ افْتَدَى به: فدیہ دے کر چھٹنا۔ ــ منه بكذا: سے پرہیز کرنا کہا جاتا ہے: افْتَدَتِ المرأةُ نفسها من زوجها: عورت کا مال دے کر اپنے شوہر سے طلاق لینا اور چھٹکارا حاصل کرنا۔ انْفَدَى انْفِداءً: فدیہ دیا جانا۔ الفِداء و الفَدَى و الفِدَى: فَدَى کے مصدر۔ وہ مال جو چھڑانے کے لئے دیا جائے۔ کہا جاتا ہے: فِداكَ ابى و فِدًى لكَ ابى: یعنی میں تمہارے اوپر اپنے باپ کو فدا کرتا ہوں۔ اس جملہ سے دعاء و اظہار محبت و تعریف و توصیف کا ارادہ کرتے ہیں۔ کبھی فعل محذوف ہوتا ہے اور حرف باء کو باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں: بابى التلميذ المجتهد: میں اس محنتی طالب علم پر اپنے باپ کو فدا کرتا ہوں۔

الفِدائي: جانباز، عالم فدائی یا جندی فِدائي: جانباز عالم یا فوجی۔ الفِدْيَة جمع فِدًى و فِدَيات: وہ مال جو چھڑانے کے لئے دیا جائے۔ الفادِي (فا): حضرت مسیح علیہ السلام کا لقب جنہوں نے اپنا خون دے کر انسانوں کو بچا لیا (عیسائیوں کا عقیدہ)۔ المُفاداة: دشمن کو اس کی قوم کا قیدی دے کر اپنی قوم کا قیدی اس سے حاصل کرنا۔

۲۔ افْدَى إفْداءً الرجُلُ: موٹا ہونا۔ الفَداء جمع افْدِية: حجم، کوٹھی یا برتن جن میں گیہوں، جو یا کھجوریں وغیرہ رکھی جاتی ہیں۔ وہ جگہ جہاں تاجر سامان اور اناج وغیرہ کا ڈھیر لگا کر رکھتا ہے۔

ﭫ فَدَى ـ فِدًى و فِداءً ہٗ/ ہٗ ب: کو کوئی چیز بطور فدیہ دے کر چھڑانا۔ ـــ ہٗ ب: کے لئے کی قربانی دینا۔ فادَى ب: کی قربانی دینا، کو پیش کرنا۔ تَفادَى من: سے بچنا، سے حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا، سے بچنے کی کوشش کرنا۔ ـ ہٗ/من: سے دور ہونا، دور رہنا، سے چھٹکارا حاصل کرنا، کو نہ ہوئے دینا، کو دور کرنا، سے بال بال بچنا، کا ازالہ کرنا، سے پہلو تہی کرنا، کنی کترانا، احتراز یا گریز کرنا۔ افْتَدَى بمعنى فَدَى۔ نیز افتدى ہٗ ب: کو کوئی اور چیز کی قربانی دے کر حاصل کرنا۔ افتدى ب: اپنے آپ کو کوئی چیز بطور فدیہ دے کر چھڑانا۔ ـــ من: اپنے آپ کو سے آزاد کرانا۔ افتداء بالنفس: کسی شخص یا چیز کے لئے اپنی قربانی دینا، کسی شخص یا چیز کے لئے اپنی جان اور مال کو خطرہ میں ڈالنا۔ فِدًى و فَدًى: فدیہ دے کر چھڑانا، فدیہ، قربانی (کیلئے، کو بچانے یا آزاد کرانے کے لئے)۔ جُعِلْتُ فِداكَ: میں تمہارے قربان جاؤں۔ مات فدى للوطن: اس نے اپنے وطن کی خاطر موت کو گلے لگایا۔ فِدْيَة جمع فِدْيات و فِدًى: فدیہ، نجات، چھڑانا، فک کرانا، کفارہ۔ فِداء: فدیہ، نجات، چھڑانا، فک کرانا، فدیہ دینا، قیمت جو کسی شخص کو کسی چیز

کے لئے ادا کرنی پڑے۔ قربانی (جو کوئی شخص کسی چیز کے لئے دیتا ہے)۔ جَعَلَ کلَّ شیءٍ فداءَہ: اس نے اس کے لئے ہر چیز قربان کردی یا چھوڑ دی یا ترک کردی۔ فِدائی: جو خاص طور پر اپنے ملک کے لئے اپنے آپ کو قربان کردے، جانباز جمع فدائیون، لڑنے والے جو اپنی جانوں کو بے دھڑک خطروں میں ڈال دیتے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی دینے والے فوجی، فدائیین، منتخب حملہ آور دستے کے سپاہی، منتخب دستے جنہیں سخت شدید حملے کرنے کی تربیت دی گئی ہو (shock troops)۔ فِدائیة: فدائیت، اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ۔ مُفاداة: قربانی۔ فادٍ: نجات دہندہ۔ مُنجی و مُنَجّی، مَفْدِی: قربانی، اور ایثار کی چیز، کسی بادشاہ کے نام، وطن، عرش وغیرہ کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ بمعنی محترم محبوب۔

فذّ: ۱۔ فَذَّ ـَفذًّا ہُ: کو تختی سے دھتکارنا۔

۲۔ اَفَذَّتِ الشاۃُ: بکری کا ایک بچہ جننا۔ صفت: مُفِذٌّ و مُفِذَّۃٌ: اور اگر یہی عادت ہو تو اسے مِفْذاد کہتے ہیں۔ تَفَذَّذَ و اِسْتَفَذَّ بالامر: میں اکیلا ہو جانا، آزاد ہو جانا۔ الفَذّ (مص) جمع اَفْذاذ و فُذوذ: فرد، اکیلا، جوئے کا پہلا تیر۔ کلمۃٌ فَذَّۃٌ و فاذّۃٌ: شاذ، غیر معمولی، کم کم یا کبھی کبھی استعمال ہونے والا لفظ الاَفَذّ: بے پر تیر۔ کہا جاتا ہے: اکلنا فَذاذی و فُذاذی و فُذاذًا و فُذاذا: ہم نے جدا جدا ہو کر کھایا، ہم نے اکیلے اکیلے کھایا۔

۳۔ فَذْ فَذْ فَذْفَذَۃً: اچانک کودنے کے لئے سمٹنا۔

○ فَذ جمع اَفْذاذ و فُذُوذ: اکیلا، صرف، تن تنہا، ایک ہی، دوسرے کے بغیر، واحد، مفرد، یکتا، بے مثال، کمیاب، غیر معمولی، انوکھا، نرالا، خلاف دستور، کم کم یا کبھی (واقع ہونے والا)۔ اَفْذاذ: غیر معمولی لوگ عجیب وغریب لوگ۔

فذلک: فَذْلَکَ فَذْلَکَۃً الحسابَ: حساب سے فارغ ہونا۔ الفَذْلَکَۃ (مص): حساب وغیرہ کی تفصیل کا خلاصہ، میزان کل۔

○ فذلکة: مختصر خلاصہ، ملخص، تلخیص، طائرانہ نظر، خاکہ، مساحت، ماحصل، مختصر صورت۔

فرّ: ۱۔ فَرَّ ـِفَرًّا و فِرارًا و مَفَرًّا و مَفِرًّا: بھاگ جانا، فرار ہو جانا، بچ نکلنا، بچ جانا۔ ـــــ الی الشیءِ: کی طرف جانا۔ کہا جاتا ہے: فَرَّ الامرُ جَذَعًا: معاملہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا۔ اَفَرَّہُ: کو بھگا دینا، فرار کرا دینا۔ تَفارَّ القومُ: ایک دوسرے سے بھاگنا۔ الفَرّ (مص): بھاگنے والا (مذکر مؤنث مفرد اور جمع کے لئے)۔

فارّ کی جمع جیسے رَکْب راکب کی جمع ہے۔ الفَرُورۃ و الفَرُورۃ: تیز بھاگ جانے والا۔ الفَرّار: بھاگ جانے میں تیز، پارہ ایک قسم کی معدنیات)۔ الفَرُور: بھاگنے میں تیز۔ الفُرُور و الفَرِیر و الفُرار: بھیڑ اور بکری کا بچہ۔ بعض نے بمعنی حملان نقل کیا ہے۔ ضرب المثل: نَزْوُ الفُرار استجهل الفُرارا: یہ اس لئے کہ جب بکری کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو کودنے لگتا ہے اور جب دوسرا اس کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کی طرح کودتا ہے۔ یہ ضرب المثل اس کے متعلق بیان کی جاتی ہے جس کی صحبت سے بچا جاتا ہے۔ کَتیبۃٌ فَرّی: شکست خوردہ، سواروں کا دستہ۔ المَفَرّ: بھاگنے کی جگہ۔ المِفَرّ من الخیل: بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا، فرار کے لئے مضبوط گھوڑا۔

۲۔ فَرَّ ـُفَرًّا و فَرارًا و فِرارًا و فُرارًا الدابۃَ: عمر دیکھنے کے لئے جانور کے دانت دیکھنا۔ عن الامر: کی کھود کرید کرنا۔ فارَرْتُہُ: میں نے اس کے حال کی اور اس نے میرے حال کی تفتیش کی۔ اِفَرَّ اِفْرارًا ت الخیلُ او الابلُ: گھوڑے یا اونٹ کے دودھ کے دانت گرنا اور دوسرے نکل آنا۔

۳۔ اَفَرَّ اِفْرارًا راْسَہُ بالسیف: کا سر تلوار سے پھاڑ ڈالنا۔

۴۔ تَفَرَّرَ بالشیءِ: ہنسنا۔ اِفْتَرَّ البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ ـــــ الرجلُ: آہستہ آہستہ ہنسنا۔ کہا جاتا ہے: ہو فُرُّ قومہ و فُرَّتُهم: وہ اپنی قوم کے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ الفِرَّۃ: مسکراہٹ۔ الاَفَرّ: خوبصورت طریقے سے ہنسنے والا اور مسکرانے والا، حسین دانتوں والا۔ الفَرِیر: منہ۔

۵۔ اِفْتَرَّ الشیءَ: کو سونگھنا۔

۶۔ الفُرَّۃ و الاَفَرَّۃ و الاُفُرَّۃ: اختلاط، شدت۔ ـــــ من الحَرّ و نحوہ: گرمی وغیرہ کی شدت اور اس کی ابتداء۔

۷۔ فَرْفَرَ فَرْفَرَۃً: تیز چلنا اور قدم قریب قریب رکھنا۔ ـــــ البعیرُ: اونٹ کا بدن کو جھاڑنا۔ ـــــ الشیءَ: کو جھاڑنا، ہلانا۔ فَرْفَرَ الطائرُ: پرندے کا پر پھڑپھڑانا، ذبح کئے جاتے وقت پر مارنا (عام زبان میں)۔ ـــــ الفرسُ اللجامَ: گھوڑے کا لگام کو سر سے علیحدہ کرنے کے لئے حرکت دینا۔ الفُرافِر: گھوڑا جو لگام کو اپنے منہ میں ہلاتا رہتا ہے، بھیڑ یا بکری یا جنگلی گائے کا بچہ، نوجوان، لڑکا۔ الفِرْفِر و الفُرْفُر: چڑیا۔ ـــــ و الفُرفُور (ح): بھیڑ، بکری یا جنگلی گائے کا بچہ، نوجوان لڑکا۔ الفُرفُورُ ذنبُہٗ مغفور: نوجوان لڑکے کی غلطی

قابل معافی ہے (عام لوگوں کی ضرب المثل)۔ الفَرفُور (ح): پتنگا، تتلی، تیتری، پروانہ۔

۸۔ فَرْفَرَ فَرْفَرَۃً الرجلُ فی کلامہ: کلام میں خلط ملط اور زیادتی کرنا۔ ـــــ الشیءَ: کو توڑنا۔ الفَرْفار: ڈانواڈول، بھڑ بھڑیا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ ڈالے۔ الفُرافِر: بے وقوف، باتونی۔

۹۔ فَرْفَرَ فَرْفَرَۃً الذئبُ الشاۃَ: بھیڑیئے کا بکری کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ـــــ الرجلَ: کی غیبت کرنا، کی آبرو پر حملہ کرنا۔ الفَرْفار و الفُرْفار و الفِرفِر و الفُرفُر و الفُرافِر و الفُرفُور: وہ شیر جو اپنے ہمسر کو پھاڑ دے۔

۱۰۔ فَرْفَرَ فَرْفَرَۃً فلانًا: پر چلانا۔

۱۱۔ الفَرْفار (ن): ایک درخت آبنوس کی طرح سیاہ خوشبودار، جس سے پیالے بنائے جاتے ہیں، اور جس کی لکڑی آگ میں دیر تک جلتی رہتی ہے۔

○ فَرَّ ـِفَرًّا و فِرارًا و مَفَرًّا من: سے بھاگنا، فرار ہونا۔ فَرَّ ھاربًا: بھاگ جانا، فرار ہو جانا، نو دو گیارہ ہو جانا۔ اَفَرَّہُ: کو بھگا دینا، فرار کرا دینا۔ اِفْتَرَّ عن: کو کھولنا یا جدا کرنا تاکہ کوئی چیز نظر آنے لگے، مسکراتے ہوئے دانت دکھانا، کودکھانا، ظاہر کرنا۔ اِفْتَرَّ: ٹمٹمانا، چمکنا، اپنی جھلک دکھانا۔ فِرار و فُرار: عینہٗ فِرارُہٗ و فُرارُہٗ: اس کی ظاہری شکل اس کے باطن کا ثبوت ہے۔ اسکے متعلق خیال قائم کرنے کیلئے، آپ کو صرف اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فَرّار: بھگوڑا، بھاگا ہوا، آبق، پارہ، سیماب۔ فُرَیْرَۃ: ایک کھیل جس میں حروف کی قیمتیں مقرر ہوتی ہیں۔ (teetotum)۔ مَفَرّ: فرار۔ لا مَفَرَّ منہ: ناگزیر، مجبوری کی بات، اٹل، ہو کر رہنے والا۔ فارّ جمع فارُّون و فارّۃ: بھگوڑا، بھاگ جانے والا۔

فرأ: ۱۔ الفَراء و الفَرَا جمع اَفْراء و فِراء (ح): جنگلی گدھا۔ کہا جاتا ہے: کلُّ الصیدِ فی جوف الفرا: (بغیر ہمزہ) مثل تھی جسے وہ شخص کہتا ہے جس کی بہت سی حاجتیں ہوں اور ان میں سے بڑی حاجت پوری ہو جائے اور اس مقصد کے لئے بھی یہ مثل بولی جاتی ہے کہ وہ باقی حاجتوں کے پوری نہ ہونے کی پروا نہیں کرتا۔ امرٌ فَرِیءٌ: من گھڑت یا بڑا معاملہ۔

○ کُلُّ الصید فی جوف الفراء: ایسا شخص یا چیز جس میں سب اچھی باتیں اور فوائد جمع ہوں اور اس کے علاوہ ہر چیز کو غیر ضروری بنا دے۔ فِراك: (فرانسیسی لفظ) کو فَراك جمع فَراکات: گاؤدم دامن والا کوٹ، پورا لباس، ڈریس۔ فَراوِلَۃ (اٹلی زبان کا لفظ

فراگولہ سے ماخوذ)، سٹرابری(strawberry)۔

فرب: الفربیون (ن): ایک قسم کا پودا جس کے تنے اور پتے آنکھوں کے لئے زہریلے اور خطرناک دودھیا رس کے حامل ہوتے ہیں۔

فرت: ا۔فَرَتَ ۔فَرْتاً: بدکار ہونا۔

۲۔فَرُتَ ۔فُرُوتَةً الماءُ: پانی کا خوشگوار ہونا، میٹھا ہونا۔ الفُرَات: بہت خوشگوار اور میٹھا پانی۔ (کہا جاتا ہے: ماءٌ فُراتٌ و مِیاهٌ فُرات: میٹھا، خوشگوار پانی) ایک بڑے دریا کا نام جو خلیج عربی میں گرتا ہے۔ سمندر۔ الفُراتان: فرات اور دجلہ کے دریا۔

۳۔فَرِتَ ۔فَرَتاً: ضعیف العقل ہونا۔

۴۔فَرْتَكَ فرتكةً: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔ ـــ الشيءَ: کو ریزہ ریزہ کرنا۔ ـــ العملَ: کام کو بگاڑنا۔ الفِرتيكة: (جسے شوکہ بھی کہا جاتا ہے: چھری کانٹا جس کے ذریعے کھایا جاتا ہے (اٹلی زبان کا لفظ)۔

۵۔فَرْتَنَ فرتنةً: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔ فُرْتَنَى بلا لام: لونڈی۔ الفُرتونة في كلام الملاّحين: طوفان باد اور سمندر میں موجوں کا تلاطم۔

○ فُرتيكة: بکسوا، بکلس۔

فرث: ا۔فَرَثَ ۔فَرْثاً ـ الحُبْلَى: حاملہ عورت کا جی متلانا۔ ـ فَرْثاً كبدَهُ: کے جگر پر مارنا۔ فَرِثَ ـ فَرَثاً القومُ: منتشر ہو جانا۔ فَرَّثَ و أَفْرَثَ الكَرِشَ: اوجھ کو چیر کر اس سے گوبر نکالنا۔ ـ الحُبُّ كبدَهُ: محبت کا جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تَفَرَّثَ القومُ: متفرق ہونا، منتشر ہونا۔ ـــ تِ الحُبْلَى: حاملہ عورت کا جی متلانا۔ اِنْفَرَثَتِ الحُبْلَى: حاملہ عورت کا جی متلانا۔ الفَرْث جمع فُرُوث: گوبر جب تک اوجھ میں رہے۔ امرأةٌ فَرُثٌ: عورت جسے حمل کے شروع میں الٹیاں آئیں اور جی برا ہو۔ الفَراثة: اوجھ کا گوبر۔

۲۔فَرِثَ ۔فَرَثاً: شکم سیر ہونا۔

۳۔مكانٌ فَرِثٌ: غیر پہاڑی اور غیر میدانی جگہ۔

فرج: ا۔فَرَجَ ۔فَرْجاً و فَرَّجَ الشيءَ: کو کھولنا، کو کشادہ کرنا۔ انْفَرَجَ: کھلنا۔ ـــ ما بين الشيئين: (دو چیزوں کے درمیان کی جگہ کا) کشادہ ہونا، چوڑا ہونا۔ الفَرْج (مص) جمع فُرُوج: دو چیزوں کے درمیان کی کشادگی، کھلی جگہ، شگاف، درز، خلا، سرحد۔ ـ من الثوب: کپڑے کی پھٹن۔ ـ من الانسان: شرمگاہ۔ (قُبُل و دُبُر)۔ فَرْجُ الوادي: وادی کا درمیانی حصہ۔ ـ الطريق: راستہ کا درمیانی حصہ۔ و الفُرُج: تانت سے علیحدہ کمان۔ الفُرْجة جمع فُرَج: دو چیزوں کی درمیان کشادگی۔ الفَرُّوج جمع فَرارِيج: بچے کی قمیص، پیچھے سے پھٹی ہوئی قباء۔ الفَرِيج: کھلا ظاہر۔ قَوْسٌ فَرِيجٌ: تانت سے علیحدہ کمان۔ التِفْرِجة جمع تَفارِج: دو انگلیوں یا کھمبوں کے درمیان کا فاصلہ۔ التَفارِيج (واحد تِفْراج): لکڑی یا لوہے کے ستونوں کے درمیان کھلی جگہیں، جنگلے کی سلاخیں، انگلیو کے درمیان کی جگہیں۔ تفاريج القباء والدرابزين و اشبه: قباء، جنگلے کی سلاخوں وغیرہ کے سوراخ یا شگاف۔ المُفْرَج: کنگھی، وہ شخص جس کی کہنی بغل سے دور ہو۔

۲۔فَرَجَ ۔فَرْجًا اللهُ الغمَّ عنه: اللہ کا کسی کے غم کو دور کرنا، زائل کرنا۔ فَرَّجَ اللهُ الغمَّ عنه: اللہ کا کسی کے غم کو دور اور زائل کرنا۔ ـــ ہُ على شيءٍ غريب لم يَرَهُ من قبل: کو کوئی عجیب چیز دکھانا جو اس نے پہلے نہ دیکھی ہو (سریانی الاصل لفظ)۔ افْرَجَ الغبارُ: گرد و غبار کا چھٹ جانا۔ ـــ القومُ عن المكان: لوگوں کا جگہ سے علیحدہ ہونا، ہٹ جانا۔ اور اسے چھوڑ جانا۔ ـــ القومُ عن القتيل: مقتول کو چھوڑ جانا۔ تَفَرَّجَ الغمُّ: غم کا دور ہونا۔ انْفَرَجَ الغمُّ: غم کا دور ہونا۔ ـ الرجلُ من ضيقهِ: تنگدستی سے چھٹکارا پانا۔ الفَرْج و الفُرُج و الفِرِج و الفُرُجّة من الرجال: بھید نہ چھپانے والا۔ الفَرَج: کشادگی۔ الفُرْجة: سختی اور غم سے نجات۔ ـ عند المولّدين: سامان راحت، حظ راحت، وجہ مسرت، سامان تفریح۔ الفَرْجة و الفِرْجة: بمعنی الفُرْجة۔ التِفْرِجة و التِفْراجة جمع تَفارِيج: کمزور، بزدل۔ المُفْرَج: مقتول جو جنگل میں پایا جائے اور قاتل معلوم نہ ہو، وہ شخص جس کے پاس نہ مال و دولت ہو، نہ اس کی کوئی اولاد یا رشتے دار ہوں۔

۳۔افْرَجَت الرجاجةُ: مرغی کا بچوں والی ہونا۔ صفت مُفْرِج۔ الفَرُّوج و الفُرُّوج جمع فَرارِيج (واحد فرّوجة) (ح): (خاص طور پر) مرغی کے چوزے۔

۴۔الفِرجار: پرکار۔ کہا جاتا ہے خط فِرجاري: بمعنی گول دائرہ (فارسی لفظ)۔

۵۔فَرْجَنَ فَرْجَنَةً الدابّةَ: جانور کو کھریرا کرنا۔ الفِرْجَون: کھریرا (فارسی سے معرب)۔

○ فَرَجَ ۔فَرْجاً و فَرَّجَ ہ: کو کھولنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا، پھاڑنا، چیرنا، میں رخنہ یا شگاف ڈالنا، میں شگاف یا درز بنانا۔ ـــ ہ: (غم وغیرہ) دور کرنا۔ ـــ عن: کو آرام دینا، تشفی دینا، کی غمخواری کرنا، کو تسلی دینا، کی دلجوئی کرنا۔ ـــ عن: کسی شخص یا چیز کو تسکین نجات یا چھٹی دینا۔ فَرَّجَ ہ على: کو کچھ دکھانا۔ افْرَجَ عن: (جگہ) ترک کر دینا، چھوڑ دینا؛ کسی کو آزاد کرنا، رہا کرنا، کسی شخص یا چیز کو چھوڑ دینا۔ تفَرَّجَ: کھلنا، جدا ہونا، علیحدہ ہونا، پھٹنا۔ ـــ: کسی کو گذرنے دینے کے لئے بھیڑ ہٹانا۔ ـــ: (غم وغیرہ) دور ہونا۔ ـــ على/في: کو دیکھنے سے تسکین، تشفی، آرام، اطمینان حاصل کرنا، کے دیکھنے میں خوشی اور مسرت پانا۔ ـ على: کسی شخص یا چیز کا لحاظ کرنا، کو دھیان میں لانا، پر غور کرنا، کو دیکھنا، کا معائنہ کرنا، کی طرف دیکھنا، کو نظر میں رکھنا۔ انْفَرَجَ: کھلنا، جدا ہونا، علیحدہ ہونا، پھٹنا، چوڑا یا وسیع ہونا، جمائی لینا۔ ـــ عن: کھلنا تاکہ کوئی چیز نظر آئے، کو دکھانا، ظاہر کرنا۔ ـــ: (چہرے، بحران کا) نرم ہو جانا، ٹھنڈا پڑ جانا، سست پڑ جانا؛ (غم وغیرہ) کا دور ہو جانا۔ فَرْج جمع فُرُوج: شگاف، سوراخ، رخنہ، موکھا، درز، خلا، عورت کی اندام نہانی۔ فَرَج: غم و افسوس سے نجات، مصیبت سے رہائی، خوشی، شادمانی، تفریح، آرام، سکھ، چین، درد میں کمی، آرام استراحت، اطمینان، سکون، آسودگی، تسکین، آسائش، خوشی، مسرت۔ خوش آئند، کامیاب خاتمہ، انجام (کسی کہانی وغیرہ کا) خوش آئند آخری حصہ۔ فُرْجة: چین، سکھ، خوشی، آرام کی حالت (خصوصاً مصیبت کے بعد) شگاف، سوراخ، درز، خلا، منظر، نظارہ، تماشا۔ فَرُّوج: (اسم جنس واحد فرّوجة) جمع فَرارِيج: چوزہ، چوزے، مرغی کے بچے۔ فَرارِجي: چوزے یا چوزوں کا گوشت بیچنے والا، مرغی والا، مرغی اور انڈے بیچنے والا، مرغی اور شکار کا گوشت بیچنے والا۔ مَفْرَج جمع مَفارِج: تفریح، آرام، سکھ، چین، استراحت، سکون، آسودگی، (قصہ وغیرہ کا) خوش آئند آخری حصہ، خوش آئند خاتمہ، انجام۔ افْراج: آزاد کرنا، رہا کرنا۔ ـ عن: کی سبکدوشی، سے دستبرداری، فارغ خطی۔ ـ عَن: جائداد، اثاثہ کا گھیراؤ ہٹانا، راشن کی اشیاء خورد و نوش سے کنٹرول اٹھا لینا۔ مُتَفَرِّج جمع مُتَفَرِّجون: تماشائی، بصر، دیکھنے والا۔ مُنْفَرِج: چوڑ چپٹ کھلا ہوا، ستایا ہوا، خوش، خوش و خرم، شاداں و فرحاں۔ فِرجار: پرکار (compass, dividers)۔ فِرجَون: کھریرا (currycomb)، برش (brush)۔

فرح: افَرِحَ ۔فَرَحاً بالشيءِ: سے یا پر خوش ہونا، اترانا، صفت فارِح و فَرِح۔ فَرَّحَ ہُ: کو خوش کرنا۔ افْرَحَ ہُ: کو خوش کرنا۔ الفَرَح: خوشی۔

الفُرْحَة و الفَرْحَة: مسرت، خوشی، خوش خبری سنانے والے کا انعام عام لوگوں کے نزدیک: حلوان اور بشارت۔ الفرحان م فَرْحَی و فَرْحَانَة جمع فَرْحَی و فَرَاحی و الفرُوح جمع فُرُح: خوشی والا۔ المِفْرَاح: بہت زیادہ خوش (مذکر و مؤنث دونوں کے لئے مستعمل ہے)۔ المَفْرُوح: مسرور، جس پر خوشی کی جائے۔

۲۔ افْرَحَ ہُ الدَّیْنُ: کو قرض کا گراں بار کرنا، غمگین کرنا۔ کہا جاتا ہے: افْرَحَتْنِی الدنیا ثم افْرَحَتْنِی: دنیا نے مجھے خوشی دی پھر غم دیا۔ آخری افرحتنی میں (أ) سلب کا معنی دیتا ہے۔ یعنی خوشی چھین لی۔ المُفْرَح (مفع) فقیر محتاج۔

۳۔ المُفْرَح: گمنام نسب والا۔

فَرِحَ -فَرَحًا ب/ل: پر خوش ہونا، خوش و خرم ہونا، مسرور ہونا، محظوظ ہونا، کے بارے میں یا پر خوش ہونا، شاداں و فرحاں اور خوش و خرم ہونا، خوش باش ہونا۔ فَرَّحَ ہ: کو خوش کرنا، باغ باغ کرنا، شگفتہ کرنا، کی دلداری کرنا، کا دل بہلانا، کا جی خوش کرنا۔ فَرَح: خوشی، مسرت، شادمانی، جشن کامرانی، ترنگ، ہنسی، قہقہے، شگفتگی، شادی، تقریب شادی جمع افْرَاح: جشن مسرت، جشن خوشی کی تقریب، شادی کی تقریب، دعوت، ضیافت۔ رَدْھَةُ الافْــراح: ضیافت کا ہال، رقص گاہ (ball room)۔ فَـرْحَة: فرحت، خوشی، مسرت، شادمانی، طرب، سرور انبساط۔ فَرِح و فَرْحان: خوش و خرم، شاداں و فرحان، خوش، مسرور، شاد، خوش مزاج، محظوظ۔ مَفَارِح: خوشی منانے کی شاندار ضیافتیں، پُر مسرت و پُر انبساط واقعات۔ تَـفْرِيح: دل بہلاوا، کھیل، تفنن، تفریح، خوشی۔ فَارِح: بمعنی فَرِح و فرحان۔ مُفْرِح: خوش کن، پر مسرت، پرانبساط، مسرت بخش، دلکش، خوش آئند، مسرت افزا، مسرور کن۔

فرخ: ا۔ فَرِخَ -فَرَخًا الى الارض: زمین سے چمٹ جانا۔ ـ الرجلُ: کی گھبراہٹ دور ہو جانا۔ فَرَّخَتِ البيضةُ: انڈے کا بچہ سے جدا ہونا۔ ـ ت الطائرةُ: پرندے کا بچوں والا ہونا صفت: مُفْرِخ۔ ـ القومُ: کمزور ہونا، گھبرانا۔ ـ الشجرُ: درخت کا پھوٹنا۔ ـ الروعُ: خوف دور ہونا۔ ـ الامرُ: مشتبہ ہونے کے بعد کسی بات یا کام کا انجام ظاہر ہو جانا۔ افْـرَخَتِ البَيْضَةُ و الطائرُ: بمعنی فَرَّخَت۔ ـ الروعُ: خوف دور ہونا۔ کہا جاتا ہے: افْرِخْ رَوْعَكَ: یعنی اپنی گھبراہٹ دور کرو اور اپنے دل کو مطمئن کرو۔ ـ الامرُ: اشتباہ کے بعد کسی بات یا کام کے انجام کا ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے: افْرَخَ القومُ بيضَتَهُمْ: یعنی قوم نے اپنا بھید ظاہر کر دیا۔ اِسْتَفْرَخَ الحَمامَ: کبوتری کو بچے دینے کے لئے لینا۔ الحَمَام: کبوتری کا بچہ والی ہونا۔ الفَرْخُ جمع فِرَاخ و افْراخ و افْرُخ وَ افْرِخَة و فِرْخَان و فُرُوخ: پرندے کا بچہ، چھوٹا پودہ یا جانور۔ ـ من الشجر: درخت کی جڑ میں نکلنے والے پودے، کمزور، ذلیل، دھتکارا ہوا آدمی۔ فَـرْخُ الـرأس: دماغ۔ الـفَرْخَة جمع فِرَاخ (ح): پرندہ کا مادہ بچہ۔ المَفْرَخ جمع مَفَارِخ: بچے نکالنے کی جگہ۔

۲۔ الفَرْخة: چوڑی نوک والا نیزہ۔

⊙ فَـرَّخَ: پرندہ کا بچوں والا ہونا، (انڈوں سے) بچے کا نکلنا۔ ـ ہ: کی تدبیر کرنا، کا منصوبہ بنانا، اختراع کرنا، انڈوں سے بچے نکالنا، انڈے سینا۔ ـــ: درخت کا، پھوٹنا، شاخیں نکلنا، سوئے نکالنا، درخت سے شاخیں نکلنا، اُگنا، درخت کی نئی کونپلیں یا شاخیں نکلنا: پھیلنا، پاؤں جمانا۔ افْرَخَ: بمعنی فَرَّخَ۔ افْرَخَ روعَه: کو ڈر کا چھوڑ دینا، کا ڈر جاتا رہنا۔ فَرْخ جمع افْرَاخ و فُرُوخ و فِراخ و فِرخان: پرندے کا بچہ (پودوں یا درخت کی) کونپل، نئی شاخ، سوا۔ فَرْخ وَرَق: کاغذ کا تختہ sheet of paper۔ فَـرْخَة جمع فِـراخ: پرندہ کا مادہ بچہ، مرغی۔ فَرْخَةً رومی: ایک قسم کا مرغ، فیل مرغ، ترکی مرغ۔ فِراخ: (فرخۃ کی جمع) مرغیاں، بطخیں وغیرہ (poultry)، پالتو پرندے، مرغے، مرغیاں۔ تَفْرِيخ: انڈے سینا، بچے نکالنا۔ آلة التفريخ: انڈے سینے کی مشین یا کمزور پیدائش کے بچے پالنے کی مشین (incubator)۔

فرد: ا۔ فَرَدَ -فُرُودًا: اکیلا ہونا۔ ـ عن الشيء: سے علیحدہ ہونا۔ فَرِدَ -وفَرُدَ -فُرُودًا: اکیلا ہونا۔ ـــ بـالامر: کو تن تنہا کرنا، کے بارے میں تنہا مشغول ہونا۔ فَرَّدَ: فقیہ ہونا، لوگوں سے جدا ہونا۔ ـ برأيه: رائے میں اکیلا یا منفرد ہونا۔ افْـرَدَ الشـيءَ: کو جدا کرنا۔ ـ ت الانثى: ایک بچہ جننا صفت: مُفْرِد۔ ـ بالامر: کے بارے میں تنہا مشغول ہونا۔ ـ اليه رَسُولاً: کی طرف قاصد بھیجنا۔ تَـفَرَّدَ بالامر: کو اکیلا کرنا، کو تنہائی میں کرنا، میں یکتا ہونا، بے نظیر ہونا۔ اِنْفَرَدَ: بغیر نظیر کے تنہا ہونا۔ ـ بالامر: تنہا کام کرنا۔ اِسْتَفْرَدَہُ: کو اکیلا پانا، کو ساتھیوں میں سے نکالنا، میں یا کے ساتھ بے مثل و بے نظیر ہونا یا میں بے مثل و بے نظیر ہونا، کو بے مثل و لاثانی اخذ کرنا۔ ـ بالامر: میں اکیلا ہونا، میں بے مثل و بے نظیر ہونا، یکتا ہونا۔ الفارد (فا): الـفـارِدة جمع فَوَارِد: فارد کا مونث: گھر میں اکیلی رہ جانے والی بکری۔ ناقةٌ فَارِدَةٌ: چراگاہ میں تنہا چرنے والی اونٹنی۔ الـفَرْد جمع فِراد: ایک، طاق۔ ـــ جمع افْراد و فُرَادَى: بے نظیر۔ ـــ جمع فُرودَة و فُرُود: ریوالور revolver۔ ـــ جمع افْراد: داڑھی کی ایک جانب، ایک ٹکوے کی جوتی۔ کہا جاتا ہے: هـذا شـيءٌ فَـرْدٌ: یہ منفرد چیز ہے۔ افرادُ الناس: بڑے لوگ۔ افراد النجوم و فُرُودها: الگ الگ طلوع ہونے والے ستارے۔ الفَرْد و الفَرِد: ایک۔ کہا جاتا ہے: هذا سيفٌ فَرْدٌ و فَرِد: یہ بے مثال تلوار ہے۔ شـيءٌ فَرْدٌ و فَرِد و فَرَدٌ و فُرُدٌ: منفرد چیز۔ الـفَرْدَة جمع فَرْدات و افْراد و فَرْد: فَرْد کا مونث۔ ـ عند المكاري: (خچر والے کے نزدیک): ایک جانور کا نصف بوجھ۔ ـــ من البضاعة (ت): سامان کا اکٹھا بندھا ہوا حصہ۔ الفُرْدَة: اکیلا جانے والا۔ الفَرْدان مونث فَرْدَى: ایک۔ کہا جاتا ہے: شـيءٌ فردان: منفرد چیز۔ لقيتُـهُ فَـرْدَيْن: ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ (میں اس سے ملا تو وہ اور میں تھے ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں تھا)۔ جـاؤُوا فُرادَ و فُرادًا و فَرْدَى و فِرادًا و فُرادَى: وہ لوگ اکیلے اکیلے آئے۔ واحد: فَرْد و فَرِد و فَرِيد و فَرْدان۔ الفَرَّاد: موتیوں کا بیچنے والا۔ الفَرْدِيّ: انفرادیت کا حامی (individualist)۔ الـفَـرْدِيَّة: انفرادیت (individualism)۔ الـفَرُود من الاشياء: لاجواب، بے نظیر چیز۔ ناقةٌ فَرُودٌ: چراگاہ میں تنہا چرنے والی اونٹنی۔ الـفريد جمع فَـرائِد: ایک، بے مثال، یکتا چھوٹا موتی جو سونے اور بڑے موتیوں کے بیچ میں ہو۔ نفیس موتی، جوہر۔ الفَرِيدَة جمع فَرائِد: فرید کا مونث، ریڑھ کی ہڈی کا وہ مہرہ جو دم کی ہڈی سے ملا ہو۔ نفیس جوہر۔ کہا جاتا ہے: اتى بـالفـرائد: وہ ایسے الفاظ لایا جو فصاحت و بلاغت اور عربی الاصل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ المُفْرَد (مفع): ایک۔ اس کا مقابل جمع ہے: الارقامُ المُفْرَدَة (ع ح): وہ ہندسے جو اکیلے ہوں جیسے واحد، ثلاثة، خمسة وغیرہ۔ المُفَرَّد من الذهب: موتی لگا کر جدا کیا ہوا سونا۔ المُفْرِد فا: کہا جاتا ہے: راكبٌ مُفْرِدٌ: وہ سوار جس کے ساتھ اس کے اونٹ یا گھوڑے کے سوا اور کوئی نہ ہو۔

۲۔ الـفارِد و الفَرِد (ح): بیل۔ المُفْرَد (ح): جنگلی بیل۔

۳۔ فَرْدَسَ فَرْدَسَةً ہ: کو پچھاڑنا، زمین پر پٹک دینا۔

۴۔ الفرنسة: گنجائش، چوڑائی۔ الفِردَوس جمع فرادِیس: باغ، جنت، مرغزار، سبزہ زار۔ فِردَوسُ النعیم: ایک جنت کا نام (جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس وقت تک رکھا جب تک انہوں نے غلطی نہیں کی تھی)۔ المُفرَدِس: کشادہ سینہ والا۔ صدرٌ مُفرَدَسٌ: کشادہ سینہ۔ کَرْمٌ مُفرَدَس: ٹٹی لگی ہوئی انگور کی بیل۔

فَرَدَ و فَرُدَ -فُرُوداً: ایک ہونا، اکیلا ہونا، عدیم المثال و یکتا ہونا۔ فَرَدَ -فُرُوداً عن: سے پیچھے ہٹنا، ہٹنا، الگ ہونا۔ فَرَدَ -فَرْداً ہ: کو پھیلانا، وسیع کرنا، بڑھانا، کھینچنا، تانا، لمبا کرنا، بڑا کرنا۔ اَفرَدَ ہ/ ہ: کو الگ کرنا، علیحدہ کرنا۔ ــ ہ ل/ب: کے لئے کچھ انتخاب کرنا، کو کیلئے مقرر کرنا، کو کیلئے مخصوص کرنا، نذر کرنا، وقف کرنا۔ تَفَرَّدَ: اکیلا ہونا۔ ــ ب: کو اکیلے اکیلے کرنا، تنہا کرنا، کا تنہا مالک ہونا۔ ــ: بے مثل و بے نظیر یا یکتا ہونا۔ اِنفَرَدَ بمعنی تفرد نیز اِنفَرَدَ فی/ب: میں اکیلا و منفرد ہونا، میں لاثانی و بے نظیر ہونا۔ ــــ عن: سے ہٹنا، جدا ہونا، دور چلا جانا، سے علیحدہ ہونا۔ اِستَفرَدَ ہ/ ہ: کو عدیم المثال، یکتا یا الگ تھلگ پانا۔ ــ ہ: کو کیمیاوی طریقے سے جدا کرنا، الگ کرنا۔

الفَرد: ماہ رجب کا لقب، جمع فِراد: ایک، جوڑے میں سے ایک فَرد جمع فُرُود و فُرُودَة: پستول، واحد، (گرامر)۔ فَرداً فَرداً: ایک ایک کر کے، علیحدہ علیحدہ، الگ الگ، ایک وقت میں ایک، ایک کے بعد دوسرا۔ فَرْدَة: ایک حصہ، ایک نصف، جوڑے میں سے ایک۔ فَـرْدِی: ایک، تنہا، یکتا و تنہا، یگانہ، اکیلا، رہنے والا، ایک شخص کا، ایک شخص کے متعلق، ایک آدمی (مرکبات میں) اکیلے (صفت) ایک رن کی ضرب singles (ٹینس میں)، ذاتی، شخصی، انفرادی، آدمی، بشر، انسان، انفرادیت کا حامی، طاق (عدد)۔ فَـرْدِیَة: انفرادی وجود، جداگانہ شخصیت، انفرادیت (individualism)۔ فـریـد: اکیلا، تنہا، یکتا، بے مثل، بے نظیر، انوکھا، لاثانی، لاجواب، بے بدل، بے مثال۔ فـریـد فی بابہ: اپنی قسم میں یکتا۔ فَـریـدَة: قیمتی موتی، گوہر، قیمتی پتھر، کاغذ کا دستہ چوبیس تختے کاغذ۔ فُراداً و فُرادَی: بمعنی فرداً فرداً۔ تَفرِیدی: مفصل، ایک ایک کر کے لکھا ہوا۔ اِنفِراد: تنہائی، خلوت گزینی، گوشہ نشینی، عزلت، گزینی، علیحدگی۔ علی اِنفِراد: تنہا، تن تنہا، جدا، علیحدہ، الگ، تنہائی میں، ایک ایک کر کے، خفیہ، راز کے طور پر۔ الانفراد بالسُلطة: مطلق العنان حکومت، حکومت استبداد، خود مختاری autocracy۔ مُـفـرَد: ایک، اکیلا، تنہا، جدا کیا ہوا، علیحدہ کیا ہوا، ایک لفظ پر مشتمل (کلام)، واحد جمع مُفرَدات: لفظ، کلمہ، شبد، بول جمع (مفردات) الفاظ، اصطلاحات، نام، اسلوب بیان، محاورات (علمی میدان کے)، تفاصیل۔ مـفـردات خاصة: فنی اصلاحیں (technical terms)، کسی علم یا فن کی اصلاحات، علم الاصطلاح، (terminology)۔ بِمُفرَدِہ: اکیلے، تنہائی میں۔ بالمُفرَدات: بالتفصیل، تفصیل یا شرح و بسط سے۔ فِردَة (فُرضَة) جمع فِرَد: ٹیکس، پول ٹیکس (Pool tax)

فرز: ا۔ فَرَزَ -فَرْزاً الشیء من غیرہ: کو دوسری چیز سے جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ فَرَّزَ تَفرِزَةً علیٰ برأیہ: (مجھ) پر قطعی حکم لگانا۔ فارَزَ شَرِیکَہُ: اپنے ساتھی کو الگ کرنا۔ اَفرَزَ الشیءَ عن غیرہ: کو سے جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ ــ فلاناً بشیءٍ: کو میں خاص کرنا اور کسی کو شریک نہ کرنا۔ تَفارَزَ الشریکان الشرکةَ: شراکت کو دونوں شرکت داروں کا منسوخ کر دینا۔ اِفتَرَزَ الامرَ: کا قطعی فیصلہ کر لینا۔ کہا جاتا ہے: اِفتَرَزَ اَمرَہُ دونَ اهل بیتہ: اس نے اپنے معاملہ میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کئے بغیر فیصلہ کر لیا۔ الـفَـرْز (مص): دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ جگہ، دو ٹیلوں کے درمیان پست زمین۔ الفِرز جمع اَفراز و فُرُوز: ٹیلہ کا راستہ، ساتھی کے لئے علیحدہ کیا ہوا حصہ۔ الفَرزَة: سخت زمین میں شگاف۔ الفِرزَة: الگ کی ہوئی چیز کا ایک ٹکڑا۔ الـفُـرزَة: باری، فرصت، ٹیلہ کا راستہ۔ الـفـارِز فا: کـلامٌ فارِزٌ: صاف اور واضح کلام۔ لِسانٌ فارِزٌ: فیصلہ کن زبان۔ الـفـارِزَة: فـارِز کا مونث: ریت میں بنا ہوا راستہ۔ الإفرِیزُ من الحائط جمع اَفارِیز: دیوار کی کانس (فارسی لفظ)۔

۲۔ اَفـرَزَ الـصـیدُ الـصـائدَ: شکار کا شکاری کو قریب سے مارنے کا موقعہ دینا۔

۳۔ الـفَـرْذَدَق (واحـد فَـرَزْدَقَة، تـصـغیر فُرَیزِق و فُرَیْزِد جمع فَرازِق: قیاسی طور پر فرازِد: وہ روٹی جو تنور میں گر پڑے، روٹی کے ٹکڑے، گوندھے ہوئے آٹے کے پیڑے۔

۴۔ تَفرَزَعَ الکلاءُ: گھاس کا گٹھا گٹھا جمع ہونا۔ الفُرزُع: بنولہ۔ الـفُـرزُعَة جمع فـرازِع: فُرزُع کا واحد: گھاس کا گٹھا۔

۵۔ فَرزَلَ فَرزَلَةً ہ: کو قید کرنا۔ الفِرزل: قید، ہتھکڑی، لوہا کاٹنے کی قینچی۔ الفُرزُل: موٹا آدمی، جسیم۔

۶۔ تَـفَـرزَنَ الـبَیـذَق: شطرنج میں پیادہ کا ملکہ بن جانا۔ فِرزان جمع فَرازِین: شطرنج کی ملکہ۔

فَرَزَ -فَـرْزاً و اَفرَزَ ہ: کو علیحدہ کرنا، جدا کرنا، الگ کرنا؛ احتراز کرنا، کی رطوبت نکالنا، کو نکالنا، خارج کرنا، کی ڈھیریاں بنانا، چھانٹنا، کی درجہ بندی کرنا، کو جانچنا۔ ــ ہ/ ہ: کی چھان بین کرنا، کے کردار کی چھان بین کرنا۔ ــ ہ: کو اکٹھا کرنا۔ ــ ہ: کو منتخب کرنا، چننا۔ ــ ہ من: کو سے شناخت کرنا، کے درمیان فرق کرنا، امتیاز کرنا، کے درمیان فرق دیکھنا۔ فَرْز: علیحدگی، جدائی، افراز، ریزش، رطوبت، پسینہ، بول و براز، فضلہ وغیرہ جو خارج ہوا کیا جاتا ہے، الگ الگ ڈھیریاں بنانا، اکٹھا کرنا یا ہونا، جائزے کے لئے اجتماع، امتحان، بغور مشاہدہ انتخاب، چننا۔ فرز عسکری: عہدے پر فائز کرنے سے قبل لیا جانے والا امتحان (عسکری اصطلاح)۔ فَرّازة: فَرّازة آلیة: بیج علیحدہ کرنے والی مشین، بیج صاف کرنے کی مشین۔ مَفرَزَة جمع مَفارِز: گروہ، گروپ، فوج یا بیڑے کا وہ حصہ جو علیحدہ مہم پر بھیجا جائے، detachment، جتھا، جماعت، فرقہ، پارٹی مل کر کام کرنے والی جماعت، رسالہ، فوج کا دستہ، منڈلی۔ اِفراز جمع افرازات: اخراج، ریزش، بول و براز، فضلہ، گوبر، رس عرق پسینہ، کھنگار، بلغم۔ قِسمة اِفراز: جنس کی صورت میں تقسیم۔ فارِزة: (و): کا نشان comma۔ مُـفـرَزات: ریزشیں، رطوبات، پسینہ، بول و براز، فضلہ، رس، عرق۔ المُفرَزات الداخلیة: اندرونی ریزشیں، رطوبتیں، افرازات۔

فرس: ا۔ فَرَسَ -فَرْساً الاسدُ فریستَہٗ: شیر کا اپنے شکار کا شکار کرنا، شکاری کی گردن توڑنا۔ ــ الذبیحةَ: ذبیحہ کی رگ کو کاٹ دینا یا اسکی گردن الگ کر دینا۔ فَـرَّسَ ہُ الشـیءَ: کو چیر پھاڑ کے لئے کسی کو پیش کرنا۔ اَفرَسَ الراعی: چرواہے کا ریوڑ کی حفاظت سے غافل ہونا اور بھیڑیے کا اسکی ایک بکری کو پکڑ کر لے جانا۔ ــــ فلانٌ الأسدَ حِمارَہٗ: کسی کا اپنے گدھے کو شیر کے لئے چھوڑ کر اپنی جان بچانا تاکہ وہ اس کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالے۔ اِفتَرَسَ الأسدُ فـریسَتَہٗ: شیر کا اپنے شکاری کی گردن توڑ ڈالنا، کا شکار کرنا۔ الفُرسَة: فَرَس کا اسم مرة۔ ــ و الفِرسَة (طب): گردن میں نکلنے والا پھوڑا۔ ابُوفِراس و الـفُـرّاس (ح): شیر، عام لوگ اسے ابو فارس کہتے ہیں۔ الـفُـرانِـس جمع فرانِسة (ح): شیر، موٹی گردن والا۔ الـفِـرنـاس جمع فَرانِسة: شیر، بہت

زیادہ، بہادر۔ الفَرِیس جمع فَرسیٰ: مقتول۔ کہا جاتا ہے: ثورٌ فَرِیس و بقرۃٌ فَرِیس: بیل یا گائے جو کھائی جا چکی ہو۔ الفریسة: فَرِیس کا مؤنث: جسے شیر وغیرہ چیر پھاڑ کر ڈالے۔ المَفرُوس: جس کی گردن میں پھوڑا نکلا ہوا ہو۔

۲۔ فَرَسَ ۔فِراسةً بالعین: نظر جمانا، کسی چیز کو وجدان سے سمجھ لینا۔ تفرّسَ فیه: کو نظر جما کر دیکھنا۔ ۔ فیه الخیرَ: میں بھلائی معلوم کرنا۔ الفارس فا: کہا جاتا ہے: هو فارسٌ بالامر: وہ معاملہ کا جاننے والا ہے۔ الأفرَس: زیادہ سمجھدار۔ الفَرّاس: ذکی، تیز ذہن شخص۔

۳۔ فَرَسَ ۔فَرْسًا الشیءَ: کو جدا جدا کرنا۔ فَرَسَ السطحَ: چھت پر سفید گارے کا لیپ کرنا۔ (سریانی لفظ، عام بول چال میں) اَفرَسَ عن بقیة مالٍ: مال لینا اور کچھ باقی چھوڑ دینا۔ الفُرس: سفید گارا، جسے چھت پر لیپ کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے (عام زبان میں)۔

۴۔ فَرُسَ ۔فَراسةً و فُرُوسةً و فُرُوسِیةً: شہسواری میں ماہر ہونا۔ تفرّسَ الرجلُ: اپنے آپ کو شہسوار ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لیس بفارس و لکنه یتفرّسُ: وہ شہسوار نہیں مگر اپنے آپ کو شہسوار ظاہر کرتا ہے یا شہسوار بنتا ہے۔ الفارس فا جمع فُرسان و فَوارِس: گھوڑا سوار، گھڑ سوار، گھوڑے والا۔ الفَرَس (ح): گھوڑا، گھوڑی اسے حِصَان بھی کہتے ہیں۔ مادہ کو حِجر بھی کہتے ہیں۔ بسا اوقات مؤنث کیلئے فَرَسة بھی کہا جاتا ہے۔ فَرَس کی جمع غیر لفظ سے خَیل آتی ہے اور اس لفظ سے آئے تو کہا جاتا ہے۔ ثلاثة افراس: تین گھوڑے اور ثلاثُ افراس: تین گھوڑیاں۔ جمع کثرت فُرُوس ہے۔ هما کفرَسَی رِهان: مثل ہے ان دو شخصوں کیلئے جو کسی ایک مقصد کے لئے مسابقت کریں اور کوشش و فضل میں مساوی درجہ رکھتے ہوں۔ (فلک) ایک ستارہ کا نام۔ فَرَسُ البحر (ح): دریائی گھوڑا، بڑے جسم اور سر کا، ٹانگیں اور دم چھوٹی، ہر ٹانگ میں چار کھر ہوتے ہیں۔ فَرَسَ النهر اور جاموس البحر بھی کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اسے hippopotamus کہا جاتا ہے۔ الفُرَیس: مذکر کیلئے اسم تصغیر بمعنی چھوٹا سا گھوڑا اور مؤنث کیلئے الفُرَیسة بمعنی چھوٹی سی گھوڑی۔ الأفرَس: زیادہ سمجھدار۔

۵۔ الفِرس (ن): ایک قسم کا پودا، کرم کلا Kaleplant۔ الفُرس: مملکت فارس کے باشندے۔ فارِس: مملکت فارس کے باشندے، مملکت فارس۔ الفارِسی: مملکت فارس کا یا سے متعلق۔ فُرس کا واحد۔ الفارسیّة: فارسی زبان۔ الفِرناس جمع فَرانِسة: دیہاتیوں کا چودھری۔ الفَرِیس: رسی کے سرے پر باندھا جانے والا حلقہ۔ الفَرّیسی: (فَرّیسین کا واحد)، فریسی Pharisee (ایک یہودی فرقہ کا رکن، تنگ نظر، ظاہر پرست، منافق اور ریاکار۔ الفرّیسیون: یہودیوں کا ایک فرقہ، مکابین کے عہد میں شریعت اور ایمان کی صفائی کیلئے منظم ہوا لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ روح کے بغیر لفظ سے وابستہ ہو گیا۔ چنانچہ جناب مسیح علیہ السلام نے ان کی ریاکاری اور غرور پر سخت ملامت کی جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ علیہ السلام کے مخالفین کی صف اول میں تھے۔ رجلٌ فرّیسی: ریاکار (کے معنی میں)۔

۶۔ فَرسَخَ فَرسَخةً الشیءُ: کشادہ ہونا۔ الفَرسَخ جمع فَراسِخ: مدتِ طویل، شگاف۔ فَرسَخ الطَّریق: تین ہاشمی میل۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بارہ ہزار گز ہے جو آٹھ کلومیٹر کے مساوی ہے۔ (فارسی لفظ)۔ سراویلُ مُفَرسَخةٌ: کشادہ شلوار۔

۷۔ فَرسَخَ فَرسَخةً البردُ او المرضُ: سردی یا بیماری کی شدت کا کم ہونا۔ تفرسَخَ و افرَنسَخَ البردُ او المرضُ: سردی یا بیماری کی شدت کا کم ہونا۔ ۔ الهمُّ عنه: کے غم کا دور ہو جانا، زائل ہو جانا۔ الفَرسَخ جمع فَراسِخ: راحت، سکون، ہمیشہ رہنے والی اور وافر چیز۔

۸۔ الفِرسِن جمع فَراسِن: اونٹ کے کھر کا کنارہ (مؤنث)۔ رجلٌ مُفَرسَنُ الوجه: پرگوشت چہرے والا امرد۔

○ فَرَسَ ۔فَرْسًا ہ: کسی درندہ کا اپنے شکار کو مارنا، چیرنا، پھاڑنا۔ تفرّسَ ہ/ ہ/فی: کو تجسسانہ یا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کو حیرانی یا شک کی نظر سے دیکھنا، کو جانچنا، کی جانچ پڑتال کرنا، کی طرف نظر جما کر دیکھنا۔ ۔ ہ فی: میں کوئی خوبی، گن، کمال وغیرہ پہچاننا، تسلیم کرنا، پیش نظر رکھنا، معلوم کرنا یا اس کا سراغ یا کھوج لگانا۔ اِفترسَ: بمعنی فَرَسَ نیز ۔ ھا: (عورت) کی عصمت دری کرنا، آبرو ریزی کرنا، کو زبردستی لیجانا۔ فَرَس: مذکر و مؤنث جمع افراس: گھوڑا، گھوڑی، (شطرنج میں) گھوڑے کا مہرہ۔ فرسُ البحر: دریائی گھوڑا۔ الفرسُ الرِهان: گھڑ دوڑ کا گھوڑا race horse۔ الفرسُ الاعظم: شمالی مجمع النجوم جو اڑتے گھوڑے کی شکل کا ہے (Pegasus) (فلکیات)۔

فَراسة: شہسواری، گھوڑے کی سواری۔ فِراسة: ژرف نگاہی، بصیرت، تیز نگاہی، تیز فہمی، ذکاوت، نکتہ رسی، فہم فراست، شعور، تمیز، امتیاز، تفریق، گہرا یا دقیق مشاہدہ، دھیان، باریک بینی، (کردار کی خصوصیات کیلئے) تیز نظر سخت نگاہ، بشری طبیعت سے وجدانی واقفیت یا اس کا وجدانی علم۔ عِلمُ الفِراسة: قیافہ شناسی، علم قیافہ (physiognomy)۔ فِراسة الید: دست شناسی palmistry۔ فَرِیسة جمع فَرائِس: (درندے کا) شکار۔ فُرُوسة: شہسواری، گھوڑے کی سواری، بانکپن، دلاوری، بہادری، زیر دستوں کی حمایت، منصب داری۔ فارِس جمع فُرسان و فَوارِس: شہسوار، سوار، نائٹ (knight)، ہیرو (hero) جمع: رسالہ (cavalry) (گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر لڑنے والے فوجی)۔ لستُ من فُرسان ذلك المیدان: میں اس میدان سے ناآشنا ہوں، میں اس میدان کا اہل نہیں۔ فارِسة جمع فارِسات: شہسوار عورت، سوار لڑاکا عورت، جنگجو عورت، دیو پیکر عورت، تنومند عورت (amazon)۔ مُفتَرِس: سخت لالچی، حریص، بھوک سے بے حال (جانور)۔ حیوانٌ مفترس: غارت گر درندہ۔ فَرسَخ جمع فَراسِخ: لمبائی کا پیمانہ، فرسنگ، سوا تین میل کا فاصلہ۔ فَرسُوفیا: وارسا (پولینڈ کا دار الحکومت)۔

فرش: الفَرش ۔فَرْشًا و فِراشًا الشیءَ: کو بچھانا۔ ۔ فلانًا امرًا: کیلئے کوئی بات آسان کرنا، مولدین کی ایک مثال ہے فرشتهُ دُخلةَ امری او فرشتُ له دُخلةَ امری: میں نے اسے معاملہ کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ ۔ الامرَ: کو پھیلانا، کی نشر و اشاعت کرنا۔ ۔ فرشًا النباتُ: نباتات کا زمین پر پھیل جانا۔ فَرَشَ الطائرُ: پرندے کا پر پھڑانا مگر کسی چیز پر نہ گرنا۔ ۔ فلانًا بساطًا: کے لئے بچھونا بچھانا۔ ۔ الدارَ: گھر میں فرش لگانا، اینٹ اور پتھر بچھانا۔ ۔ الزرعُ: کھیتی کا پھیلنا اور پتوں کا بڑھنا۔ اَفرشَ ہ بساطًا: کے لئے بچھونا بچھانا۔ ۔ الشاةَ للذبح: بکری کو ذبح کرنے کے لئے زمین پر لٹانا۔ ۔ الشجرُ: درخت کی ٹہنیوں کا لمبا ہونا۔ ۔ الرجلُ: آدمی کا بچھونے والا ہونا۔ ۔ المکانُ: جگہ کا زیادہ پروانوں والا ہونا۔ تفرّشَ الطائرُ: پرندے کا پر پھڑانا اور پر پھیلانا مگر کسی چیز پر نہ گرنا۔ اِفترشَ الشیءُ: پھیلنا۔ ۔ ذراعیه: زمین پر بازو پھیلانا۔ ۔ الرجلَ: کو پچھاڑنا۔ ۔ الشیءَ: کو روندنا۔ ۔ الطریقَ: راستہ پر چلنا۔ ۔ اِثرَ فلان: کا پیچھا کرنا۔ ۔ عِرضَه: کی بے عزتی

کرنا۔ المالَ: مال غصب کرنا۔الفَرْش (مص):
چٹائی، قالین، گدا، فرنیچر، بکثرت نباتات والی جگہ،
کشادہ زمین، کھیتی جب کہ اس کے تین پتے نکل
آئیں، چھوٹے چھوٹے درخت، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں
(جو جلانے کے کام آتی ہیں)، چھوٹے چھوٹے اونٹ
(اور اس معنی کے لحاظ سے اس کا واحد نہیں آتا)، گائیں
بکریاں جو صرف ذبح کئے جانے کے قابل ہوں۔
الفَرْشَة: فَرَش کا اسم مرة، بچھونا (عام زبان میں)۔
الفِرْشَة: بچھانے کی ہیئت۔ کہا جاتا ہے ھو حَسَنُ
الفِرْشَة: یعنی وہ اچھی حالت میں بچھا ہوا ہے۔الفِرَاش
جمع اَفْرِشة و فُرُش: بچھونا، پرندہ کا گھونسلا۔
الفَرَاش: زمین پر خشک شدہ کیچڑ ـــ من الرِجَال:
بہت ہلکا پھلکا مرد۔الفَرَاشة جمع فَرَاش (ح):
پروانہ، اوچھا شخص۔ کہا جاتا ہے ماھو إلّا فَرَاشة:
وہ صرف اوچھی طبیعت کا آدمی ہے اور یہ حقارت کے
وقت کی ضرب المثل ہے۔الفَرَّاش: بہت بچھانے
والا۔الفَرِیش من النبات جمع فَرَائِش: زمین
پر پھیلی ہوئی بیل۔المِفْرَش: بچھونا۔المِفْرَشة
جمع مَفَارِش: کجاوہ پر بچھانے کا چھوٹا سا بچھونا۔
المُفَرَّش (مفع): کہا جاتا ہے جَمَلٌ مُفَرَّشٌ:
بغیر کوہان کا اونٹ۔

۲فَرَش ـفَرْشًا و فِرَاشًا الرجُلُ: جھوٹ بولنا۔
افرش الرجُلَ: کی غیبت کرنا اور اس کے بارے
میں بری باتیں کرنا۔الفَرْش: جھوٹ۔

۳فَرَشَ ـفَرْشًا و فِرَاشًا عنهُ: کا ارادہ کرنا اور اس
کے لئے تیار ہونا۔

۴افْرَش عنهُ: سے علیحدہ ہونا، دور ہونا ـــ عنهُ
الموتُ: سے موت کا ٹل جانا۔

۵افْرَشَ السَیفَ: تلوار کی دھار کو پتلا کرنا۔افْتَرَشَ
تِ الشجّةُ الدِمَاغَ: زخم کے نشان کا دماغ کو تڑ قانا۔
الفَرَاش: لگام باندھنے کے دو لوہے کے ٹکڑے۔
الفَرَاشَة: پتلی ہڈی یا پتلا لوہا، کندھوں کا اٹھا ہوا حصہ۔
فَرَاشُ الدماغ کا واحد: بمعنی کھوپڑی تک پہنچنے والی
پتلی پتلی ہڈیاں۔ من القُفل: تالے کی جھڑ۔

۶الفَرَاش (ع ا): زبان کے نیچے کی دو سبز رگیں ـــ
من النبیذ: شراب کے بلبلے۔فَرَاشُ الطاحون
عند الطحانة: پن چکی کا پہیہ جسے پانی چلاتا ہے۔فَرَاشُ
السفینة: نالی کی شکل کا ایک آلہ جو کشتی یا جہاز کو آگے کی
طرف دھکیلتا ہے، جہاز راں اسے دَقَّاش کہتے ہیں۔
الفِرَاش جمع افْرِشة و فُرُش: منہ کی جڑ میں زبان کی
جگہ۔الفَرَاشَة: تھوڑا سا پانی۔المُفْرُشَة: جسے
اَلْفُرْشَایَة بھی کہتے ہیں جمع فَرَاش: برش (brush)
(دانت صاف کرنے یا اونی کپڑے وغیرہ صاف
کرنے کا) (فرانسیسی لفظ بَرُوس سے معرب ہے)۔
الفَرِیش جمع فَرَائِش: گھوڑی جس نے حال میں
بچہ دیا ہو۔

۷فَرْشَحَ فرشحةً و فَرْشَحَی: ٹانگیں کشادہ کرنا، ڈھیلے
طریقہ سے رانوں کو زمین سے ملا کر بیٹھنا، ٹانگیں ملا کر
کودنا۔الفِرشَاح: پھیلا ہوا، کھر، بہت موٹی عورت،
بے بارش کا بادل۔

۸فَرْشَخَ فَرْشَخَةً الرجُلُ: ٹانگیں پھیلانا (یہ فَرْشَحَ
کی تحریف بھی ہو سکتی ہے)۔الفَرْشخة: وسعت،
کشادگی، گنجائش۔

فَرَشَ ـفَرْشًا و فِرَاشًا ہ: کو پھیلانا، بچھانا۔ ـہ
ب: (زمین، فرش، راستہ، کمرہ وغیرہ) کو سے ڈھکنا،
پر سے فرش باندھنا۔فَرَّشَ ہ ب: (فرش وغیرہ کو سے
ڈھکنا)۔ ـ (ہ): کو فرنیچر (کرسی میز وغیرہ) سے آراستہ
کرنا، میں فرنیچر لگانا؛ میں ٹائل لگانا، میں فرش بندی
کرنا۔افْتَرَشَ ہ: کو پھیلانا، بچھانا؛ پر لیٹنا، پر پھیلنا،
دراز ہونا، پر پاؤں پسار کر بیٹھنا یا لیٹنا، پر ٹانگیں پھیلا کر
گرنا۔ ـھا: (عورت) کے ساتھ ہمبستر ہونا۔افْتَرَش
لِسانَهُ: زبان کو بے لگام کرنا۔فَرْش جمع فُرُوش:
فرنیچر، گھریلو اثاث، فرش، چٹائی، کمبل، قالین، غالیچہ،
بستر کے طور پر زمین پر بچھائی ہوئی کوئی چیز، بنیاد، نیو۔
فُرْشَہ: پلنگ، گدا۔فَرَاش: (اسم جمع واحد فَرَاشَة)
پروانے، پتنگے، تتلیاں، تیتریاں۔فَرَاشَة: پروانہ،
پتنگہ، تتلی، تیتری، تلون مزاج شخص۔فِرَاش جمع
فُرُش و اَفْرِشَة: تکیہ، کمبل، غلاف، چادر، گدا،
پلنگ۔فَرَّاش: قالین، غالیچے بچھانے والا، نوکر،
خادم، حاضر باش، گھریلو نوکر، خاص خدمت گار، بیرا،
چپڑاسی، قاصد یا سودا سلف لانے والا لڑکا۔مِفْرَش
جمع مَفَارِش: میز پوش، پلنگ پوش، چادر، بچھونا۔
مِفْرَشَة جمع مَفَارِش: زین کا کمبل۔مَفْرُوش
ب: سے ڈھکا یا ڈھانپا ہوا۔ ـ مہیا شدہ، آراستہ۔
مَفْرُوشَات: فرنیچر، اثاث البیت۔فَرَّشَ ہ: کو
برش کرنا۔فُرْشَة جمع فُرَش: برش، رنگ روغن
کرنے والا برش۔فُرْشَةُ البودرہ: غازہ ملنے کی
گدی powder puff۔فُرْشَةُ اَسنَان: دانت
صاف کرنے کا برش (tooth brush)۔فَرْشَحَ
فَرْشَحَةً و فَرْشَخَ فَرْشَخَةً: ٹانگیں پھیلا کر کھڑا
ہونا یا بیٹھنا۔فُرَیْشِینَة: بال پن (hairpin)۔

فرص: فَرَصَ ـفَرْصًا الشیءَ: کو کاٹنا ـ الجلدَ:
کھال چیرنا، پھاڑنا۔فَرَّصَ اَسْفَلَ النعلِ: جوتے
پر لوہے کی نوک سے نقش کرنا۔الفُرْصَة و الفَرْصَة
و الفِرصة: اون یا روئی کا ٹکڑا۔المِفْرَص جمع
مَفَارِص و المِفْرَاص جمع مَفَارِیص: لوہا یا چاندی
کاٹنے کی قینچی۔

۲فَرَصَ ـفَرْصًا الفُرْصَةَ: فرصت پانا۔فَارَصَ
مُفَارَصَةً ہُ فی الشیءِ: میں کے ساتھ باری باری آنا۔
أَفْرَصَ الفُرْصَةَ: فرصت پانا ـــ تهُ الفُرْصَةُ: کو
فرصت ملنا۔تَفَرَّصَ الفُرْصَةَ: فرصت پانا۔تَفَارَصَ
القومُ البئرَ: قوم کا کنویں پر باری باری آنا۔افْتَرَصَ
الفرصَةَ: فرصت کو غنیمت جاننا۔ فرصت یا موقع پانا۔
کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یُفْتَرَصُ اِحسانُهُ و بِرُّهُ:
یعنی اس کے احسان کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں۔
الفُرْصَة جمع فُرَص: باری، مناسب وقت، بہترین
موقع۔ (کہا جاتا ہے انتھز الفرصةَ: اس نے
موقع کو غنیمت جانا۔ کہا جاتا ہے جاءتْ فُرْصتُك
من السقی: تمہاری پانی کی باری آ گئی ـــ فی
المدارس: سکول کی چھٹی تعطیل۔ اسے العطلة المدرسیة
بھی کہتے ہیں۔الفَرِیص (واحد فریصة): اپنی
باری پر کام کرنے والا۔ آپ کہتے ہیں ھو فَرِیصی:
وہ میرے ساتھ باری پر کام کرنے والا ہے۔
الفَرِیصَة جمع فَرِیص و فَرَائِص: باری۔

۳فَرَصَ ـفَرْصًا الرجُلَ: کی رگ گلو پر مارنا، کے شانہ
کے گوشت پر مارنا۔فُرِصَ فَرْصًا و فَرَصًا: کے
شانہ کے گوشت میں درد ہونا۔الفَرِیص واحد فَرِیصَة:
گلے کی رگیں۔الفَرِیصَة جمع فَرِیص و فَرَائِص:
پہلو اور مونڈھے یا پستان اور مونڈھے کے درمیان کا
گوشت جو خوف کے وقت اچھلنے لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے:
ارتعدت فَرِیصَتُهُ: وہ بہت گھبرا گیا۔ھو ضخمُ
الفَرِیصَة: وہ سخت نڈر ہے۔

۴الفِرصاد: سرخ رنگ (ن): توت یا توت کا درخت۔
ـ و الفِرْصِد و الفِرْصِید: انگور کے بیج۔

فَرَّصَ: چھٹیاں کرنا یا منانا۔فُرْصَة: مناسب وقت یا
موقع، موقعہ، نیک ساعت، چھٹیاں، تعطیل۔فُرْصَةً
من الزَمَن: مختصر عرصہ کے لئے۔انتھز الفُرصَةَ:
موقعہ سے فوراً فائدہ اٹھانا، موقعہ کو غنیمت جاننا۔
فَرِیصَة جمع فَرَائِص: مونڈھے کے نیچے کا
گوشت یا پٹھا۔ارتعدت فریصته او فرائصُهُ:
سخت خوف یا جوش نے اس پر قبضہ کر لیا۔مُفَرِّص:
چھٹیاں منانے والا، سیاح، سیاحت کرنے والا۔فِرصاد:
شہتوت یا شہتوت کا درخت (mulberry)۔

فرض: ا۔ فَرَضَ -فَرْضاً الخشبة و فيها: لکڑی کاٹنا، چھیدنا۔ فَرَّضَ الخشبةَ لکڑی میں سوراخ کرنا۔ اِفْتَرَضَ القومُ قوم کا ختم ہونا۔ الفَرض (مص) من القوس جمع فِراض: چلہ کمان کی جگہ۔ الفُرْض: کٹائی۔ الفُرْضَة جمع فُرَض و فِرَاض: لکڑی جس میں دروازہ کی چول ہو۔ ـ من النهر: دریا کا دہانہ۔ ـ من البحر: سمندری بندرگاہ۔ ـ من القوس: کمان کا سرا جو تانت لگانے کے لئے کاٹا جاتا ہے۔ ـ من الدواة: دوات میں سیاہی کی جگہ۔ فُرْضَةُ الجبل: پہاڑ کے وسط اور کنارے کے پست زمین۔ الفِرَاض: دریا کا دہانہ۔ المِفْرَاض و المِفْرَض: کاٹنے کا اوزار۔ المَفْرُوض: کاٹا ہوا۔

۲۔ فَرَضَ -فَرْضًا الامرَ: کو فرض کرنا، معین کرنا۔ ـ له: کے لئے وقت مقرر کرنا۔ ـ لفلان كذا: کیلئے کسی چیز کو فرض کرنا۔ ـ له كذا فى الديوان: کھاتہ میں کے متعلق معلومات لکھنا اور اس کے روزینہ کا اندراج کرنا۔ ـ اللّٰهُ الاحكام على عباده: اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کیلئے احکام واجب ٹھہرانا۔ ـ فُرُوضًا و فَرَاضَةً تِ البقرةُ: گائے کا عمر رسیدہ ہونا صفت: فَارِض۔ (عمر رسیدہ گائے جو زکوۃ میں اس کے مالک سے نہیں لی جاتی)۔ فَرُضَ -فَرَاضَةً: علم فرائض کا جاننے والا اور ماہر ہونا۔ ـ فُرُوضًا و فَرَاضَةً تِ البقرةُ: گائے کا عمر رسیدہ ہونا۔ صفت: فَارِض فَرَّضَ الامرَ: کو واجب کرنا۔ أَفْرَضَ لفلان كذا: کو کیلئے فرض قرار دینا۔ ـ تِ الماشيةُ: گائے بیل وغیرہ کا نصاب کو پہنچنا، زکوٰۃ کے قابل ہونا۔ ـ فلانًا شيئًا: کو کچھ دینا۔ اِفْتَرَضَ اللّٰهُ الاحكامَ على عباده: اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احکام واجب ٹھہرانا۔ ـ الجندُ: فوج کا تنخواہ لینا۔ الفَرْض جمع فُرُوض و فِراض: اللہ کا بندوں پر مقرر کیا ہوا قانون۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر مقرر کیا ہوا فرض۔ درج شدہ عطیہ، فوج کی تنخواہ، تنخواہ دار فوج، اپنے اوپر لازم کیا ہوا کام، طالب علم کو دیا ہوا گھر پر کرنیکا کام (home work)۔ كتاب الفرض: اوقات مقررہ پر ادا کی جانے والی مفروضہ نمازوں کی کتاب۔ الفارِض جمع فُرَّض م فَارِضَة جمع فَارِضَات و فَوَارِض: قدیم۔ ـ و الفَرِيض و الفَرَضِيّ و الفَرَّاض: علم فرائض کا جاننے والا۔ الفَرِيْضَة جمع فَرَائِض: فرض، زکوٰۃ، مفروضہ حصہ۔ علمُ الفرائض: وہ علم جس سے وارثوں کے ہم کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ اصحابُ الفَرائِض: وہ وارثین جن کے حصے مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ فلانٌ أَفْرَضُ الناس: فلاں شخص علم فرائض کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ المَفْرُوض (مفع): اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر واجب کیا ہوا حکم، محدود۔

۳۔ فَرَضَ -فَرْضاً الامرَ: کا اندازہ کرنا، خیال کرنا اور عقل سے سمجھنا (کو فرض کرنا) (suppose)۔ الفَرْض (ع ح): مفروضہ۔ الفَرْضِيَّة و المَفْرُوض (ع ح): مفروضہ۔ الافتراض عند المنطقيين: مفروضہ۔

۴۔ الفِرَاض: کپڑا۔ الفَارِض جمع فُرَّض م فَارِضَة جمع فَارِضَات و فَوَارِض: موٹا، ضخیم۔

(ج) فَرَضَ -فَرْضًا: قرار دینا، فیصلہ کرنا۔ ـ ہ: کا حکم جاری کرنا، کا فیصلہ سنانا، کی ڈگری دینا، کا حکم دینا۔ ـ ل ہ: کے لئے کچھ (روپے وغیرہ) مقرر کرنا، کو کچھ (روپے وغیرہ) دینا، کے لئے کچھ مقرر کرنا، متعین کرنا۔ ـ علی ہ: پر کچھ عائد کرنا، تھوپنا، کے گلے کچھ منڈھنا، کو کی ہدایت کرنا، کو کا حکم دینا، کو پر لازم، واجب، فرض یا لازمی کرنا۔ ـ الحصارَ علی: پر ناکہ بندی عائد کرنا۔ ـ ہ/ان: فرض کرنا کوئی بات یا کہ...... کو قبل از وقت فرض کر لینا، پہلے ہی سمجھ بیٹھنا کہ ......۔ ـ ہ: کو لازمی شرط قرار دینا۔ ـ ارادته علیہ: پر اپنی مرضی ٹھونسنا۔ فَرَّضَ ہ: میں دندانہ ڈالنا، پر نشان لگانا، میں چیرے دینا، کو چیرنا۔ اِفْتَرَضَ علی ہ: پر کچھ عائد کرنا، کو کی ہدایت کرنا، کو کا حکم دینا، پر کچھ لازمی، لازم، واجب یا فرض کرنا، پر کچھ تھوپنا، کے گلے کچھ منڈھنا۔ ـ ہ: کا حکم جاری کرنا، کا فیصلہ سنانا، کا حکم دینا۔ ـ ہ/ان: کو فرض کرنا یا فرض کرنا کہ ......۔ فَرْض جمع فُرُوض: دندانہ، دانتا، چیرا، فرض، واجب، فریضہ، نصیحت وعظ، حکم، فرمان، فیصلہ، ڈگری، مذہبی فریضہ، قانونی حصہ، فرض کرنا، مفروضہ (منطق میں): مقدمہ (مقدمہ صغری مقدمہ کبری)، قیاس، مفروضہ نظریہ، اصول موضوعہ، دعوی، بے دلیل دعوی۔ فروضُ التحية: سلام کرنے کی مقررہ شکلیں۔ فرضُ عين: انفرادی فریضہ۔ فرض كفاية: اجتماعی فریضہ۔ على فرض أن: فرض کیا کہ۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ بالفرض...... على فرض: بطور مقدمہ پیش کرتے ہوئے ...... تمہید کے طور پر کہتے ہوئے۔ فَرْضِيّ: فرضی، مشروط، مفروضہ، قیاسی، خیالی، اٹکل پچو، بلا ثبوت فرض کردہ۔ فَرْضِيَّة: قیاس، مفروضہ نظریہ، مفروضہ۔ فُرْضَة جمع فُرَض: دندانہ، دانتا، چیرا، شگاف، درز، خلال، دراڑ، دراز، روزن، سمندری بندرگاہ، دریائی بندرگاہ، چھوٹا بندرگاہ کا شہر small port town۔ فَرِيْضَة جمع فَرَائِض: دینی فرض، ربانی فرمان، حکم، ہدایت، نصیحت، فرمان الٰہی، فرض نماز، املاک میں تقسیم کے متعلق حصے۔ فريضةُ الجمعة: جمعہ کی فرض نماز۔ ذو الفرائِض: قرآن مجید کے مقرر کردہ ورثاء۔ علمُ الفرائِض: انتقال جائیداد بطور ورثہ کا قانون۔ افتراض: فرض کرنا، مفروضہ، فرض، گمان، قیاس، تصور پیش از وقوع، قیاس اولین، مقدمہ صغری و کبری بنیادی شرط۔ مفروضہ نظریہ۔ اِفتراضي: فرضی، مشروط، مفروضہ۔ فَارِض: بوڑھا، سن رسیدہ۔ مَفْرُوض: فرض کیا ہوا، مفروضہ بطور تمہید یا شروع میں کیا ہوا۔ مَفْرُوضَات: فرائض، ذمہ داری کے احساس۔

فرط: فَرَطَ -فُرُوطًا: آگے بڑھنا، مقدم ہونا۔ ـ فَرْطًا ہُ: پر غالب ہونا۔ ـ علی فلان: سے پہلے جلدی کرنا۔ پر ظلم کرنا۔ ـ ولدًا: کا بچہ مرنا۔ ـ منه قولٌ: بغیر سوچے سمجھے کہنا۔ ـ الیه رسولاً: کے پاس جلدی قاصد بھیجنا۔ ـ فَرْطًا و فَرْطَةً القومَ: لوگوں سے پہلے گھاس یا پانی کے پاس جانا صفت: فَارِط جمع فَارِطُون و فُرَّاط۔ فَرَّطَ ہُ: کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔ ـ الیه رسولاً: کے پاس قاصد روانہ کرنا۔ فَارَطَ فِرَاطًا و مفارَطَةً ہُ: سے سبقت لیجانا۔ أَفْرَطَ: کام میں جلدی کرنا۔ ـ رسولاً: قاصد کو بھیجنا۔ ـ فلانٌ ولدًا: کا بچہ بلوغت سے پہلے فوت ہو جانا۔ ـ بيده إلى السيف ليستلّه: تلوار کھینچنے میں جلدی کرنا۔ تَفَرَّطَ الفرسُ الخيلَ: گھوڑے کا گھوڑوں پر سبقت کرنا۔ تَفَارَطَ: آگے بڑھنا، جلدی کرنا۔ ـ القومُ: ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ـ تِ الهمومُ: کو غموں کا لاحق ہونا۔ اِفْتَرَطَ الیه فی الامر: میں سے آگے بڑھنا، میں پر سبقت لیجانا۔ اِفْتَرَطَ ولدًا: کا بچہ چھوٹی عمر میں مر جانا۔ الفُرُطُ: واحد۔ جمع أَفْرَاطُ الصباح: صبح کی پہلی شعاعیں۔ الفَرَط: اپنی قوم سے پانی کی طرف جانے میں سبقت کرنے والا۔ اس میں واحد اور جمع یکساں ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: رجُلٌ فَرَطٌ و قوم فَرَطٌ: اور اسی سے ہے: أنا فَرَطُكُمْ على الحوض: میں تم سے پہلے حوض پر پہنچنے والا ہوں، جلد بازی، پہلے پہنچا ہوا اجر، بچے کی میت کی دعا میں کہتے ہیں: اللّٰهمّ اجعله لنا فَرَطًا: (اے اللہ اس کو ہمارے لئے آگے پہنچنے والا اجر بنا دے) نابالغ بچہ۔ کہا جاتا ہے: سبقهٗ

فَرَطٌ کثیرٌ: اس سے پہلے بہت سے نابالغ بچے مر گئے۔ الفُرُط: وہ تیز گھوڑا جو سب گھوڑوں سے آگے بڑھ جائے۔ الفَرْطَة و الفُرْطَة: نکلنا، آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے: هو ذُو فُرْطَةٍ فی البلاد: وہ بہت سے سفر کرنے والا ہے۔ الفُراطَة و الماءُ الفِرَاط: وہ پانی جو چند قبیلوں کے درمیان مشترک ہو اور جو اس تک پہلے پہنچ جائے اسی کا ہو جائے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے: بئرٌ فُرَاطَةٌ۔

۲۔ فَرَطَ ـُ فَرْطًا فی الامرَ: میں کوتاہی کرنا اور اسے ضائع کرنا۔ ـــــ منه شیءٌ: سے چیز کا جاتا رہنا۔ فَرَّطَ فی الشیء: میں کوتاہی کرنا اور اس میں عاجزی ظاہر کرنا۔ ـ الشیءَ و فی الشیء: کو ضائع کرنا، کو متفرق کرنا، بکھیرنا۔ فَرُطُ الاشجار عند العامة: زیتون، اخروٹ اور بادام وغیرہ کے درخت (سریانی لفظ)۔ ـ عنه: کو مہلت دینا، سے رکنا۔ ـ اللّٰهُ عنه ما یکره: کو اللہ تعالیٰ کا مکروہات سے دور کرنا۔ اَفْرَطَ الامرَ: کو بھول جانا، چھوڑ دینا۔ ـ الشیءَ: کو بھول جانا، ترک کر دینا۔ کہا جاتا ہے: ما افرط منهم احدًا: اس نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تَفَرَّطَ الشیءُ: کا وقت گذر جانا۔ تَفَارَطَ الشیءُ: کے وقت میں دیر ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَفَارَطت الصلٰوةُ عن وقتها: نماز اپنے وقت سے متاخر ہو گئی۔ اِفْتَرَطَ: کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یُفْتَرَطُ اِحسانه: فلاں کے احسان کے ختم ہونے کا خوف نہیں کیا جاتا۔ اِنْفَرَطَ: کھلنا۔ الفَرْط: وقت۔ کہا جاتا ہے: اتیتُهُ فَرْطًا: میں اسکے پاس چند دنوں کے بعد آیا، یہ وقت پندرہ دن سے زائد اور تین دن سے کم نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے: آتِیكَ فَرْطَ یوم او یومَین: میں تمہارے پاس ایک یا دو دن کے بعد آؤں گا۔ لا القاهُ اِلّا فی الفرط: میں اس سے چند ایام میں ایک مرتبہ ملوں گا۔ ـــ و الفُراطَة عند العامة: چھوٹے سکے جیسے پانچ قروش کا سکہ وغیرہ۔ الفَرَط: وہ کام جس میں کوتاہی کی جائے۔ الفُرُط: چھوڑا ہوا کام۔

۳۔ فَرَطَ ـُ فَرْطًا علیه فی القول: سے پیش دستی کرنا اور حد سے گزر جانا، سے بات کرنے میں جلدی کرنا۔ ـــ علی فلان: کو تکلیف دینا۔ فَرَّطَهُ: کی مدح یا ہجو میں حد سے گزر جانا۔ اَفْرَطَ: زیادتی یا کمال کے لحاظ سے حد سے تجاوز کرنا۔ ـــ الاناءَ: برتن کو لبالب بھرنا۔ ـــ علی الرَّجُلِ: پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔ الفَرْط (مص) جمع اَفْرُط و اَفْراط: اِفراط کا اسم۔ بمعنی حد سے تجاوز۔ الفُرُط: اسراف، ظلم و زیادتی۔ ـ الامرُ الفُرُط: وہ بات یا کام جس میں حد سے تجاوز کیا گیا ہو۔

۴۔ فَارَطَ فِراطًا و مُفَارَطَةً ہُ: کو پالینا۔

۵۔ الفَرْط جمع اَفْرُط و اَفْراط: ٹیلہ کا سرا، چھوٹی پہاڑی، راستہ کا نشان۔ الفُرُط: دامن کوہ۔ مَفَارِط البلاد: اطراف بلاد۔

۶۔ فَرْطَحَ فَرْطَحَةً الشیءَ: کو چوڑا کرنا۔ رأسٌ فِرطاح و مُفَرْطَح: چوڑا سر۔

۷۔ فَرْطَسَ الخنزیرُ: سور کا اپنی ناک کو لمبا کرنا۔ الفِرطاس: چوڑا۔ فُرطوسةُ الخنزیر جمع فَرَاطِیس: سُور کی ناک۔ الفِرطیسة: ناک کا بانسہ۔ فِرْطِیسَةُ الخنزیر: سُور کی ناک۔ جمع فَرَاطِیس۔

○ فَرَطَ ـُ فَرْطًا ہ: سے پہلے یا آگے ہونا، سے مقدم ہونا۔ ـــ من: کی زبان سے الفاظ کا نادانستہ نکل جانا، پھسل پڑنا؛ سے نکلنا، بچنا، نظر بچانا، کو نادانستہ پیش آنا، سے اوجھل ہو جانا۔ ـ فی: کو نظر انداز کرنا، میں غفلت کرنا، کے بارے میں بے پروا ہونا، فرض ناشناس ہونا، غافل ہونا۔ ـ ہ: (پھل) چھیلنا۔ فرط منه شیء: کو ضائع کر دینا، کو کھو دینا، نہ پاسکنا۔ فَرَّطَ ہُ/ہ/فی: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، فراموش کرنا۔ ـــ ہ/فی: کو چھوڑنا، سے دست بردار ہونا، کو ترک کرنا، سے الگ ہو جانا، سے قطع تعلق کرنا، کو فارغ خطی دینا، سے دست کش ہونا، کو تیاگنا۔ ـ ہ/عن: سے جدا ہونا، علیحدہ ہو جانا۔ ـ فی: کو نظر انداز کرنا، میں غفلت کرنا، کے بارے میں پروا نہ ہونا، فرض ناشناس ہونا، غافل ہونا؛ میں حدود سے تجاوز کرنا، میں بہت دور چلا جانا، میں، بہت زیادہ ہونا، بے اندازہ ہونا، حد سے زیادہ سعی کرنا، مبالغہ سے کام لینا؛ کو ضائع کرنا، گنوانا۔ اَفْرَطَ فی: میں مناسب حدود سے آگے بڑھ جانا، بہت دور چلا جانا، بہت زیادہ یا بے اندازہ ہونا، میں مبالغہ کرنا، کو غلط یا ناجائز استعمال کرنا۔ انْفَرَطَ من: سے اترنا، سے الگ ہونا، سے گرفت ڈھیلی ہونا، جدا ہونا۔ ـــ: کھلنا، حل ہونا، ختم ہونا، اختتام پذیر ہونا۔ اِنْفَرَطَ عقدُهم: وہ ہمت ہار گئے، وہ الگ ہو گئے، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، وہ غائب ہو گئے۔ فَرْط: زیادتی، حد اعتدال سے تجاوز، مبالغہ۔ فَرَط: (روپیہ، سرمایہ وغیرہ پر) سود۔ فُرَاطَة: چھوٹی ریزگاری، چھوٹے سکے۔ تفریط: تغافل، بے پروائی، بے توجہی، فروگذاشت، ادائے فرض میں کوتاہی۔ اِفْرَاط: زیادتی، حد اعتدال سے تجاوز، مبالغہ۔ فَارِط: گذشتہ۔ یومُ الاحد الفارط: گذشتہ اتوار کو۔ مُفْرِط: مسرف، فضول خرچ، شاہ خرچ، بے دریغ خرچ کرنے والا، اڑا دینے والا، بے دردی سے خرچ کرنے والا۔ مُفْرِط: مبالغہ آمیز، بہت زیادہ۔

فَرْطَحَ ہ: کو چوڑا کرنا، کشادہ کرنا، چپٹا کرنا، ہموار کرنا۔ مُفَرْطَح: چوڑا چپٹا، کشادہ، سپاٹ، قطبین پر پچکا ہوا، موٹا، فربہ، چربیلا، فربہ اور ڈھیلا ڈھالا، بہت ہی پھولا ہوا، ابھرا ہوا، حد سے بڑھا ہوا۔

فرع: ۱۔ فَرَعَ ـَ فَرْعًا و فُرُوعًا الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ ـ القومَ: قوم سے شرافت اور خوبصورتی میں فائق ہونا۔ ـــ راسَهُ بالعصا: کے سر پر لاٹھی مارنا۔ فَرَّعَ فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ اَفْرَعَ الشیءُ: طویل اور بلند ہونا۔ تفَرَّعَ الشیءَ: پر بلند ہونا۔ ـ القومَ: قوم سے فائق ہونا، کو گالیاں دینا۔ الفَرْع (مص) من کل شیء جمع فُرُوع: ہر شئے کا اوپر کا حصہ جو جڑ سے نکلا ہو، جیسے: فرعُ الشجرة: (درخت کی شاخ)۔ فرعُ القوم: شریف سردار۔ فَرْعُ الاُذن: کان کا اوپر کا حصہ۔ الفَرْعَة جمع فِرَاع: راستہ کا بلند اور اوپر کا حصہ، پہاڑ کی چوٹی۔ الفَارِع (فا): بلند خوبصورت۔ کہا جاتا ہے: جبل فَارِع: اردگرد کے پہاڑوں سے اونچا، پہاڑ۔ الفارِعَة جمع فَوَارِع: فارع کا مونث۔ فارِعَةُ الجبل: پہاڑ کا اوپر کا حصہ۔ فارعةُ الطریق و فَرْعَاؤُهُ: راستہ کا اوپر والا حصہ اور وہ حصہ جہاں راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ المُفْرِع: طویل، لمبا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مُفْرِعُ الکتف: فلاں چوڑے یا اونچے کندھے والا ہے۔

۲۔ فَرَعَ ـَ فَرْعًا و فُرُوعًا الوادیَ: وادی میں اترنا۔ فَرَّعَ من الجبل: پہاڑ سے اترنا۔ اَفْرَعَ من الجبل: پہاڑ سے اترنا۔ ـــ بالقوم: قوم کے پاس اترنا۔ الفَارِع: پست۔

۳۔ فَرَعَ ـَ فَرْعًا و فُرُوعًا الفرسَ باللجام: گھوڑے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔ کہا جاتا ہے: هذا اوّلُ صیدٍ: یہ پہلا شکار ہے جس کا اس نے خون گرایا۔ اَفْرَعَت الابل: اونٹنی کا پہلا بچہ جننا۔ ـ الفرعَة: (اونٹ بھیڑ بکریوں) کا پہلا بچہ ذبح کرنا۔ ـــ اللجامُ الفرسَ: لگام کا گھوڑے کے منہ کو خون آلود کرنا، لہولہان کرنا۔ ـ تِ الضبعُ الغنمَ او فی الغنم: بجو کا بکریوں میں تباہی مچانا اور ان کو مار ڈالنا۔ اُفْرِعَ بفلان: پکڑا جانا اور قتل ہو جانا۔ اِفْتَرَعَ البکرَ: کنواری لڑکی کی بکارت زائل کرنا۔ اِسْتَفْرَعَ الرجُلُ: اونٹوں اور بکریوں کے پہلے بچے ذبح کرنا۔ الفَرَع واحد فَرَحَة: اونٹوں

اوربکریوں کے پہلے بچے۔

۴۔ فَرَعَ ـ فَرْعًا و فُرُوعًا الارضَ: زمین میں گھومنا پھرنا۔ فَرَّعَ فی الارض: زمین میں گھومنا، پھرنا۔ افْرَعَ حاجتهٗ او سفرهٗ: کام یا سفر شروع کرنا۔ ـ الامرَ: کو شروع کرنا۔ ـ الارضَ: زمین میں گھومنا پھرنا۔ ـ القوم من سفرِهم: سفر کی واپسی کے وقت سے پہلے سفر سے واپس آجانا۔ اِسْتَفْرَعَ الشیءَ: کو شروع کرنا۔

۵۔ فَرَعَ ـ فَرْعًا و فُرُوعًا بین القوم: لوگوں میں روک بن جانا یا اصلاح کرنا۔ المِفْرَع جمع مَفارِع: لوگوں میں صلح کرانے والا۔

۶۔ فَرِعَ ـ فَرَعًا: گھنے بالوں والا ہونا۔ صفت: افْرَع م فَرْعاء جمع فُرْع۔ فَرَّعَ بینهم: کے درمیان تفریق کرنا۔ ـ المسائلَ من هذا الاصل: مسائل کو قاعدہ یا اصل کی فروع بنانا اور اصل سے ان کا استنباط کرنا۔ تَفَرَّعَ ت الاغصانُ: ٹہنیوں کا بہت ہونا اور پھیلنا۔ ـ الشیءُ من الشیءِ: ایک چیز کا دوسری پر مترتب ہونا مبنی ہونا۔ ـ ت المسائلُ: مسائل کا اصول سے متفرع ہونا۔ الفَرْع جمع فِراع: پہاڑی نالہ۔ جمع فُرُوع: منفعت بخش مال۔ ـ فی المسائلِ العِلْمِيَّة: وہ مسئلہ جو دوسرے مسئلہ پر مبنی ہو اور اس کو اس پر قیاس کیا جائے۔ اس کے مقابل اصل ہے۔ فَرْع المرأة: عورت کے بال۔ کہا جاتا ہے: ضَرَبَهٗ علی فَرْعَيْ اَلْيَتِهٖ: اس نے اس کے سرین کے اس حصہ پر مارا جو بیٹھنے میں زمین پر لگتا ہے۔

۷۔ فارَعَ ہٗ: کو کفایت کرنا اور اس کا بار اپنے ذمہ لینا۔ افْرَعَ اهلَهٗ: اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا۔

۸۔ الفَرْعَ واحد فَرْعَه (ح): جوئیں۔ الفَرَعَ واحد فَرَعَة: جوئیں، قسم۔ کہا جاتا ہے: تراضوا بالفَرَعِ: وہ تقسیم پر راضی ہوگئے۔

۹۔ فَرْعَنَ فرعنةً الرجلُ: تکبر کرنا، مکار، فریبی ہونا۔ تَفَرْعَنَ: فرعونوں جیسے اخلاق اختیار کرنا۔ ـ النباتُ: نباتات کا لمبا اور مضبوط ہونا۔ ـ فلانٌ علینا: کے خلاف سرکشی کرنا، پر زبردستی کرنا۔ الفَرْعَنَة: مکاری، فریبی۔ ـ عند العامة: رندی، بدکاری، آوارگی، لاپرواہی، غرور۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مُفَرعِن: فلاں شخص متکبر ہے، مغرور ہے۔ فِرْعَوْن و فُرْعُون و فِرْعَون: سرکش، باغی۔ ـ جمع فَراعِنة: مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔

○ فَرَعَ ـ فَرْعًا و فُرُوعًاہ: سے بازی لیجانا، پر سبقت لیجانا، سے آگے نکل جانا، سے اعلی و اشرف ہونا۔ فَرَّعَ: شاخ در شاخ ہونا۔ ـ ہ من: کو سے حاصل کرنا، کو سے مشتق کرنا، کو سے استخراج کرنا، استنباط کرنا۔ تَفَرَّعَ: نئے کام کی طرف مائل ہونا، شاخ در شاخ ہونا، شاخیں نکلنا، تمام اطراف میں پھیلنا (سڑک، پائپ لائن) کا جدا ہونا، دوراستے نکلنا، تقسیم ہونا، پھوٹنا۔ اِفْتَرَعَ ها: کا کنوارپن ختم کرنا۔ فرع جمع فُرُوع اَفْرُع: ٹہنی، شاخ، ٹہنیاں، شاخیں، مشتق، حصہ، ذیلی تقسیم، برانچ آفس branch offic (ذیلی دفتر)، برانچ، برانچ لائن، فیڈر لائن، برانچ وائر، فیڈ وائر، ذیلی محکمہ، ذیلی ادارہ۔ الفروع یا علم الفُرُوع: عملی یا استفادی فقہ، عملی یا استفادی اخلاقیات/اصول اخلاق۔ شرعًا و فرعًا: مکمل حق کے ساتھ، صحیح مقصد کے ساتھ، انصاف سے۔ تَفَرُّع: تعدد اطراف، ذہنی ہمہ گیری جمع تَفَرُّعات: شاخ در شاخ ہونا۔ تفرع، تفرعات: ثانوی اشیاء، لازم وملزوم حالات، معمولی عوامل۔ فارِع: لمبا، اونچا، پتلا اور لمبا، پتلا دبلا، خوبصورت۔ فارع الطول: لمبا۔ فارع القامة: لمبا اور پتلا۔ مُفَرَّع: شاخ در شاخ۔ مُتَفَرِّعات: ثانوی اشیاء لازم وملزوم حالات، معمولی عوامل۔

فرغ: ۱۔ فَرَغَ ـ مو فَرِغَ ـ فَراغًا و فُرُوغًا من العمل: کام سے فارغ ہونا، خالی ہونا۔ ـ لهٗ و اِلَيْه: کا قصد کرنا۔ ـ فُرُوغًا الرجلُ: مرجانا (کیونکہ مرنے پر جسم روح سے خالی ہوجاتا ہے)۔ ـ الظرفُ: برتن کا خالی ہوجانا۔ ـ فلانٌ من الشیء: کو تمام کرنا۔ فَرَّغَ و افْرَغَ الاناءَ: برتن کو خالی کردینا۔ تَفَرَّغَ: کام سے خالی ہونا۔ ـ لِلامر: کام میں اپنی پوری طاقت لگادینا اور پوری پوری کوشش کرنا۔ الفَرْغ جمع فُرُوغ: قحط زدہ زمین۔ الفِرْغ: خلا۔ الفَرِغ: فارغ۔ الفراغ جمع افْرِغة: جانور کی پیٹھ پر لدے ہوئے بوجھ کا ایک طرف کا حصہ۔ الافْرَغ م فَرْغاء: فارغ۔ اِنفَراغ جسمٍ مكهرب او مُرَكَّم: جسم کا برقی چارج سے خالی ہونا۔ (ف): ہلکے کئے ہوئے گیس میں برقی رو کا گزرنا۔ حَلْقَةٌ مُفَرَّغَة: تکیا جس کے اطراف ٹھوس ہوں اور اندر سے خالی ہو۔

۲۔ فَرَغَ ـ فُرُوغًا دمُهٗ: کا خون رائیگاں جانا، بدلہ کا مطالبہ نہ کیا جانا۔ ـ فَرْغًا علیه الماءَ: پر پانی انڈھیلنا۔ فَرُغَ ـ فَراغَةً ت الطعنةُ: نیزے کی ضرب کا وسیع ہونا۔ صفت: فَرِيغة۔ فَرَّغَ ـ فَرْغًا علیه الماءَ، پر پانی انڈھیلنا، گرانا۔ ـ فَراغًا الماءُ: پانی گرنا، انڈھیلا جانا۔ فَرَّغَ الماءَ: پانی انڈھیلنا۔ ـ الدماءَ: خون بہانا۔ کہا جاتا ہے: فَرَّغَ اللّٰهُ علیه الصبرَ: اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے (دعائیہ کلمہ)۔ افْرَغَ الماءَ: پانی انڈھیلنا۔ ـ الدماءَ: خون بہانا۔ ـ الذهب و نحوهٗ: سونے وغیرہ کو سانچے میں ڈالنا۔ الفَرْغ جمع فُرُوغ: برتن کا وہ کنارہ جس سے پانی انڈھیلا جائے۔ کہا جاتا ہے: هذه طعنة ذات فَرْغٍ: یہ نیزے کا زخم چوڑا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے۔ ذهَبَ دمُهٗ فَرْغًا او فِرغًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔ الفَراغ جمع افْرِغة: ڈول کا کنارہ جہاں سے پانی انڈھیلا جائے، برتن، بڑا پیالہ، نیزے کا چوڑا حصہ، وہ جانور جو چلتے وقت کشادہ قدم رکھے۔ کہا جاتا ہے: رجُل فِراغ: تیز رفتار لمبے ڈگ بھرنے والا۔ الفَرِيغ جمع فِراغ: چوڑا، ہموار زمین کو یا راستہ ہو، چلتے وقت چوڑے قدم رکھنے والا جانور۔ رجُل فَرِيغ: تیز زبان آدمی۔ طَرِيقٌ فَرِيغ: چوڑا راستہ۔ الفَرِيغة: فریغ کا مونث، پانی کا چھاگل۔ ضربَةٌ فَرِيغ و فريغة: تلوار کا کشادہ زخم جس سے خون بہے۔ طعنةٌ فَرْغاء: نیزے کا کشادہ زخم۔ الفَرْغان: کشادہ برتن۔ دِرهَمٌ مُفْرَغ و مُفَرَّغ: سانچے میں ڈھلا ہوا درہم جس پر ٹھپہ نہ ہو۔ فَرَسٌ مُسْتَفرِغ: انتہائی تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

۳۔ فَرُغَ ـ فَراغَةً: بے چین ہونا، گھبرانا۔

○ فَرَغَ ـ وفَرِغ ـ فُرُوغًا و فَراغًا: خالی ہونا، تھکا ہوا ہونا۔ ـ من: سے چھٹکارا پانا، پورا کیا جانا، کو مکمل کرنا، ختم کرنا۔ ـ ل/الی: کی طرف توجہ دینا، کی طرف میلان ہونا، کو تن دہی سے کرنا، میں لگ جانا، میں مشغول رہنا، لگا رہنا۔ فرغ إلى نفسه: اپنے خیالات مجتمع کرنا۔ فَرَّغَ ہ: کو خالی کرنا: سے مال اتارنا۔ ہ: کو انڈھیلنا۔ افْرَغَ ہ: کو خالی کرنا۔ ـ ہ علی: کو پر انڈھیلنا۔ ـ ہ فی: کو میں انڈھیلنا۔ ـ ہ: کو جہاز سے اتارنا۔ افْرَغَهٗ فی قالب: کو سانچے میں ڈھالنا (مجازا)۔ افْرَغَ مَجْهُودَهٗ یا جُهْدَه فی: میں انتہائی کوشش کرنا، زور لگانا، جدوجہد کرنا، میں پورا زور لگانا، مقدور بھر کوشش کرنا۔ تَفَرَّغَ: (کام سے) فارغ ہونا، غیر مشغول ہونا، بیکار ہونا، یونہی پڑا ہونا، کو فرصت ہونا۔ ـ ل/الی: (کسی کام کے لئے) آزاد ہونا، فارغ ہونا، صرف میں مشغول رہنا، میں لگا رہنا، پر توجہ دینا، کو تن دہی سے کرنا۔ اِسْتَفْرَغَ ہ: کو خالی کرنا۔ ـ: قے کرنا۔ ـ مَجْهُودَهٗ: میں انتہائی کوشش کرنا، زور

لگانا، جدوجہد کرنا، میں ہر کوشش کرنا، میں پوری طاقت صرف کرنا، میں مقدور بھر کوشش کرنا۔ فَـرِغ: خالی۔ فَرَاغ: خلا، خالی ہونا، خالی جگہ۔ (ــ ل: کے لئے خالی جگہ، گنجائش) علاقہ یا حقوق (ان چیزوں کے جو بطور جائداد نا قابل انتقال ہوں لیکن بطور قبضہ منتقل ہو سکیں)، خالی وقت، فرصت۔ فَرَاغِی: خلا کا، خلا سے متعلق۔ فُـرُوغ: خالی ہونا، خلا، کھوکھلا پن، خالی جگہ، غیر مشغولیت، فراغت، اختتام، سخت تھکاوٹ۔ فُرُوغُ الصبر: بےصبری، بےتابی۔ اَفْرَغ: زیادہ خالی۔ تفریغ: خالی کرنا، مال اتارنا۔ اِفراغ: خالی کرنا، انڈھیلنا۔ اِسْتِفْرَاغ: خالی کرنا، قے کرنا۔ فَـارِغ: خالی، غیر مشغول، بیکار، یونہی پڑا ہوا، فرصت کے وقت کا، فرصت، دھڑا، کوتی (تجارت)۔ بِفَارِغِ الـصبر: بےصبری سے، بےتابی سے۔ مَـفْـرُوغ منه: (مسئلہ وغیرہ) طے شدہ، (موضوع وغیرہ) جامع یا مکمل بحث کیا ہوا۔ مُفْرِغ: خالی کرنے والا، خلا پیدا کرنے والا۔ آلَةٌ مُـفْـرِغَةٌ: خلا پمپ vacuum pump۔ مُفَرَّغ: خالی شدہ، ہوا نکالا ہوا، خلا کا، خلا کے متعلق؛ کھوکھلا۔ مُفْرَغ: (سانچہ میں) ڈھالا ہوا۔ حَلْقَةٌ مُفْرَغَة: بےجوڑ چھلا، انگوٹھی، انگشتری؛ استدلال کا چکر، برائی کا چکر۔

فـرف: الفَرْفَح: چکنی پھسلنے والی زمین۔ الفَـرْفَحة (عند العامة): چستی۔ کہتے ہیں: فَرْفَحَ فلانٌ فهو مُفَرْفَحٌ: وہ چست ہوا۔ صفت چست۔ الفَرفَحِينِ (ن): لوبیا، باقلا، خرفہ (purslane)۔

۲۔ فَرْفَطَ الشيءَ (عند العامّة): کو ریزہ ریزہ کرنا۔ فَرْفُوطة (سریانی): ریزہ جمع فَرَافِيط: ریزے۔

فرق: الفَرَقَ ـفَرْقًا و فُرْقَانًا بينهما: کو ایک دوسرے سے جدا کرنا۔ ـ البحرَ: سمندر کو پھاڑ کر دو حصے کرنا۔ ـ فَرْقًا الشَعَرَ: بالوں میں کنگھی کرنا، مانگ نکالنا۔ ـ فُرُوقًا لهُ الطريقُ: کے لئے راستہ کا واضح ہونا۔ ـ الامرُ لفلانٍ: معاملہ یا بات کا کسی پر واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ ـ له عنِ الشيء: پر کی تشریح و توضیح کرنا۔ ـ ت الناقةُ: اونٹنی کو دردزہ شروع ہونا۔ فَرَّقَ تفْرِيقًا و تَـفْرِقَةً الشيءَ: کو تقسیم کر کے جدا جدا کرنا۔ ـ شَعَرَهُ بالمشط: بالوں میں کنگھی کر کے مانگ نکالنا۔ فَـارَقَ فِرَاقًا و مُفَارَقَةً هُ: سے علیحدگی و جدائی اختیار کرنا۔ اَفْـرَقَ غنَمَهُ: اپنی بکریوں کو کھو دینا، ضائع کر دینا۔ ـ المريضُ من مرضِهِ: مریض کا بیماری سے افاقہ پانا، تندرست ہو جانا۔ تَـفَرَّقَ تفَرُّقًا و تِفِرَّاقًا و تَـفَـارَقَ و افْتَـرَقَ: بکھر جانا، منتشر ہو جانا۔ کہا جاتا ہے: تَـفَـرَّقَت بِهِم الطرقُ: ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے متفرق راستہ پر چل دیا۔ اِنْفَرَقَ عنهم: سے جدا ہونا۔ ـ لهُ الطريقُ: پر راستہ کا واضح ہونا۔

الفَارِق (فا) جمع فُرَّاق م فارقَة جمع فَوَارِق و فَارِقات: ہر وہ بات جو حق و باطل کو جدا کر دے، اکیلا بادل کا ٹکڑا۔ ـــ جمع فَوَارِق و فُرَّق و فُرُق و فُـرَّاق: دردزہ شروع ہونے پر دوسرے اونٹوں سے الگ ہو کر اکیلی ہونے والی اونٹنی۔ الـفَارُوق: امور میں فیصلہ کرنے والا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا لقب۔ الـفُرُق: تورات۔ قرآن۔ الـفَرْق (مص): مانگ (بالوں میں نکالی ہوئی)۔ الفِرْق: ہر چیز کی قسم، چیز کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا، بچوں کی ٹولی، بکریوں وغیرہ کا بڑا ریوڑ۔ فِرْقُ النحل (ح): شہد کی مکھیوں کی نو آبادی جو ملکہ مکھی اور نر کارکنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ گنجان آباد چھتہ کو چھوڑ کر بنائی جاتی ہے شہد کی مکھیاں پالنے والے اس قسم کی نو آبادیوں سے نئے چھتے تعمیر کرتے ہیں۔ الـفَرَق: سامنے کے دو دانتوں کا فاصلہ اور دوری۔ ـــ جمع اَفْـرَاق و اَفْرُق: بمعنی فَرْق؛ صبح یا صبح کی ابتداء۔ ـ في الخيل: گھوڑے کے ایک سرین کا دوسرے سے اٹھا ہوا ہونا، جو ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ نَبْـتٌ فَرِقٌ: متفرق یا چھوٹی گھاس جو زمین کو نہ چھپا سکے۔ الـفُرْقَة و الفِرَاق: جدائی۔ الفِرْقَة جمع فِرَق: لوگوں کا ایک گروہ۔ الـفُرْقَان (مص): ہر وہ چیز جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو، دلیل، مدد، صبح، سحر، تورات، قرآن۔ الفَرِيق جمع اَفْرِقَاء و اَفْرِقَة و فُرُوق: آدمیوں کا ایک گروہ اور بڑی جماعت، ریوڑ۔ فَرِيقُ الخيل: دوسروں سے آگے بڑھنے والا گھوڑا۔ نِيَةٌ فَـرِيـقٌ: بٹی ہوئی نیت۔ الفَرِيقة: بکریوں کا ریوڑ۔ الافرق م فَرْقَاء جمع فُرْق: جس کی داڑھی یا پیشانی کے بال جدا کئے ہوئے ہوں، جس کے دانت جدا جدا ہوں، جس نے بالوں میں مانگ نکالی ہوئی ہو۔ دِيكٌ اَفْـرَق: وہ مرغ جس کی کلغی شاخ در شاخ ہو۔ تَيْـسٌ اَفْرَقُ: دور دور سینگوں والا مینڈھا۔ کہا جاتا ہے: ضَمَّ تفاريق متاعه: اس نے اپنے متفرق سامان کو اکٹھا کیا۔ اخذحقهُ بـالتـفاريق: اس نے اپنا حق تھوڑا تھوڑا کر کے لیا۔ الـمَفْرِق و المَفْرَق من الطريق جمع مَفَارِقَ: دوراہا۔ ـــ من الشعر: بالوں کا وہ حصہ جہاں مانگ نکالی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے: وَقَّفَهُ علی مفارق الحديث: اس نے اسے بات کے واضح پہلوؤں سے مطلع کیا۔

۲۔ فَرَقَ ـفَرْقًا الطائرُ: بیٹ کرنا۔ افْرَقَ الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ ـ الطائرَ: پرندہ سے بیٹ کرانا۔

۳۔ فَرِقَ ـفَرَقًا منه: سے گھبرا جانا۔ فَرَّقَ تَفْرِيقًا و تَـفْرِقَةً الرجُلَ: کو ڈرا دینا، کو خوف زدہ کرنا، کو خوف دلانا۔ الـفَرَق (مص) جمع اَفْرَاق و اَفْرُق: گھبراہٹ۔ کہا جاتا ہے: فَـرَقٌ خير من حُبٍّ: محبت کئے جانے سے بہتر ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے۔ الـفَرُق و الفَرِق و الفَارُوق و الفَرُوق و الـفَـرُّوق م فَـرُقَة و فَرِقَة: بہت گھبرانے والا۔ الفَرُوقَة و الـفَرُّوقَة و الفَارُوقَة: (مذکر و مونث دونوں کے لئے): بہت گھبرانے والا یا والی، بزدل مرد یا عورت۔

۴۔ فَرِقَ ـفَرَقًا الرجُلُ: موج میں داخل ہونا۔ الفِرْق: موج۔

۵۔ الفُرُق: اناج وغیرہ ناپنے کا برتن۔ الفَرْق: کتان۔ الفِرْق: ٹیلہ، پہاڑی۔ الـفَرُوق: قسطنطنیہ کا لقب۔ الفَرِيقَة (ط): زچہ کے لئے پکایا جانے والا کھانا۔

۶۔ الـفَرْقـد (فلك): قطب شمالی کے قریب ایک ستارہ کا نام، اس سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، اس کی دوسری جانب ایک اور ستارہ جو اس سے روشنی میں کم ہے، اس طرح یہ دو ستارے ہوئے جو فَرْقدان کہلاتے ہیں۔ ـــ من الارض: ہموار اور سخت زمین۔ ـــ جمع فَرَاقِد (ح): نیل گائے کا بچہ۔

۷۔ فَـرْقَـعَ فَرْقَعَةً و فِرْقاعًا: بہت تیز دوڑنا، گوز کرنا۔ صفت: فِرْقاع۔ ـ الاصابعَ: انگلیاں چٹخانا۔ ـ فلانًا: کی گردن مروڑنا۔ الفِرقِيعَةَ عند العامة: پٹاخہ چلانا۔ تَـفَـرْقَعَ: انگلیوں کا چٹخنا۔ اِفْـرَنْقَعَ: انگلیوں کا چٹخنا۔ الفِرْقِيعة جمع فِرقِيعات: پٹاخہ، ہوائی، پھلجھڑی وغیرہ (عام زبان میں)۔

۸۔ اِفْرَنْقَعَ عنهُ: سے الگ ہونا، دور ہونا۔

○ فَرَقَ ـفَـرْقًا و فُرْقَانًا ه: کو الگ کرنا، جدا کرنا، تقسیم کرنا، دو ٹکڑے کرنا۔ ـ بين: کے درمیان امتیاز کرنا، فرق کرنا۔ فَـرَّقَ ه عن: کا سے فرق کرنا۔ ـــ ه علی/في: کو پر یا میں تقسیم کرنا۔ ـــ ه: کو ڈرانا، خائف کرنا، کی حوصلہ شکنی کرنا، ہولا دینا، خوف زدہ کرنا، دہشت زدہ کرنا۔ فَرِّقْ تَسُدْ: پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ فَارَقَه/ ه: کو چھوڑنا، ترک کرنا، سے علاحدہ ہونا، سے علیحدگی اختیار کرنا، سے پیچھے ہٹنا، سے تجاوز کرنا، انحراف۔ ۲۔ تَفَرَّقَ: علیحدہ ہونا، جدا ہونا، منقسم ہونا، منتشر ہونا، بکھر جانا، صحت کا گرنا۔ اِنْفَرَقَ: علیحدہ ہونا یا ہو جانا، الگ ہونا یا ہو جانا، متفرق ہونا، تقسیم ہونا۔ ـــ عن: اپنے آپ کو سے علیحدہ کر لینا،

سے الگ ہونا، کوترک کرنا، چھوڑ دینا۔ اِفْتَرَقَ بمعنی تَفَرَّقَ: اِفْتَرَقَ طرائقَ قِدَدًا: کئی حصوں، گروہوں میں بٹ جانا، تقسیم ہوجانا۔ فَـرْق: جدائی، علیحدگی، فراق، ہجر، تقسیم، تمیز، تفریق، انقطاع، امتیاز، فرق، مانگ (بالوں کی) جمع فُرُوق: اختلاف، نامطابقت، چھوٹی ریزگاری، سکے۔ جمع حقائق کے لحاظ سے ملتے جلتے لیکن اپنے قانونی مضمرات کے لحاظ سے مختلف مقدمات (cases) ـفِرْق: حصہ، سیکشن، وحدت (unit)، گروہ، منڈلی، جتھا، علیحدہ مہم پر بھیجے جانا والا دستہ، ریوڑ، غول، گلہ ڈار۔ فَرَق: خوف، ڈر، دہشت۔ فَرِق: بزدل، ڈرپوک، پست ہمت، خوفزدہ، خائف۔ فِـرْقَة جمع فِـرَق: حصہ، ڈویژن، سیکشن، وحدت (یونٹ)، جتھا، گروہ، ٹولہ، پارٹی، کمپنی (فوجی) کسی خاص مہم پر بھیجا جانے والا فوجی دستہ، طبقہ، گریڈ، جماعت (سکول کی): ایک نصاب کے طالب علم کا طائفہ، جوڑی، ٹولی، ٹیم، جہاز وغیرہ کا عملہ (فوج کی) ڈویژن۔ الـفِـرْقَة الأَجْنَبِيَّة: فارن لیجن (foreign legion)۔ الـفِرقَةُ الخامسة: ففتھ کالم the fifth column۔ فِـرْقَة مُصَفَّحة: بکتر بند ڈویژن۔ فِرقَةُ المطافي یا فرقةُ الاطفاء: فائر بریگیڈ، آگ بجھانے کا شعبہ۔ فِـرقَةُ الإعدام: فائرنگ سکوئیڈ firing squad۔ فرقة استعراضية: طائفہ (show troupe) یا revue troupe، طائفہ جو حالات حاضرہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ فِـرْقَة مُوسِيقِيَّة: سازندوں کا طائفہ، آرکسٹرا orchestral۔ فِرقَةُ موسيقي: فوجی بینڈ باجہ۔ فُرقَة: نااتفاقی۔ فريق جمع فُرُوق و أَفرِقَة و افرقاء: جتھا، ٹولی، حلقہ، جمعیت، گروہ، فوج کی کمپنی، ٹروپ، خاص مہم پر بھیجا جانے والا دستہ، یونٹ، پارٹی، ٹیم، فریق لفٹیننٹ جنرل، وائس اڈمرل۔ فـريق اول: لفٹیننٹ جنرل۔ فـريق ثـان: میجر جنرل۔ فَـرُوق: بہت ڈرپوک، بزدل۔ فارُوق: بہت بزدل، بودا، ڈرپوک۔ فاروقية: مصری ہوائی فوج کی موسم سرما کی ٹوپی کا نام۔ فرقان: ثبوت، گواہی، شہادت۔ الـفـرقـان: قرآن مجید۔ مَـفْـرَق و مَـفْـرِق جمع مَفارِق: چوراہا، نقطہ تقاطع، دوشاخی تقسیم، دوشاخہ (سڑک کا)، تراہا، مقام اتصال، چوراہا، چوک۔ مَـفْـرَق الطرق: چوراہا۔ الـمَـفْرَق یا قلعةُ المَفْرَق: (شمالی اردن میں ایک شہر کا نام)۔ مَـفْـرِق الشعر: بالوں کی مانگ۔ تـفاريق: اکیلے، علیحدہ حصے، علیحدہ کئے ہوئے حصے۔ بـالتفريق: بالتفصیل حصوں میں، خوردہ فروشی سے۔ بـالـتَّـفـرِقَة: بالتفصیل، اجزاء کی صورت میں، خوردہ فروشی سے۔ مع بُعدِ الفارق: زبردست اختلاف کے باوجود۔ مُـفَرِّق: تقسیم کنندہ، خوردہ فروش، ڈاکیہ۔ مُـفَرَّق: خوردہ فروشی یا پھٹکل کا یا سے متعلق۔ تـاجرُ الـمُفرَّق: خوردہ فروش۔ بـالـمُفرَّق: خوردہ فروشی سے۔ مُـتَـفَرِّق: منتشر، بکھرا ہوا، نادر الوقوع، کبھی کبھی ہونے والا۔ مُـتَـفَرِّقَات: متفرقات کا مجموعہ، متفرق اشیاء۔ مُـفْـتَرَق و مُفْتَرَق الطُرُق: چوراہا، مقام اتصال۔ فَـرْقَـعَ فَرْقَعَةً: بھک کرنا، تڑتڑانا، چھٹنا، پھٹ کر اڑ جانا، دھماکے سے پھٹنا۔ تَفَرْقَعَ: بمعنی فَرْقَعَ۔ فَرْقَعَة: دھماکا، بھک، پھٹ کی آواز، کڑک، گرج۔ مُـفَرْقِع: بھک سے اڑ جانے والا، دھماکے کے ساتھ پھٹنے والا، بارود سے اڑانے والا، جمع مُفَرْقِعات: دھماکے سے پھٹنے والی چیزیں (یا مادے) پٹاخے، آتش بازی۔ فَرْقَد: بچھڑا، بچھیا۔ الفَرْقَدان: دبّ اصغر کے دو چمکدار ستارے (two bright stars of Ursa Minor)۔ فَـرْقِـلَّة جـمـع فَرْقِلات: چابک۔

فرك: افَـرَكَ ـفَـرْكًـا الثوبَ: کپڑے کو ملنا۔ـــ الشيءَ عن الثوب: کو رگڑ یا کھرچ کر کپڑے سے زائل کرنا۔ــ الجوزَ و نحوَهُ: اخروٹ وغیرہ کو رگڑ کر چھلکا اتار دینا۔ فَـرَّكَ هُ: کو خوب رگڑنا۔ أَفْرَكَ السنبلُ: بالی کا پھل کردانے کھانے کے قابل ہونا۔ تَفَرَّكَ و انْفَرَكَ: انگلیوں میں ملا جانا، چھلکا اترنا، مقشر ہونا۔ اِسْتَفْرَكَ الحَبُّ في السُّنبلة: دانے کا بالی میں سخت اور موٹا ہوجانا۔ الـفَـرِك: اترے ہوئے چھلکے والا۔ کہا جاتا ہے: لوزٌ فَرِكٌ: آسانی سے چھلکا اتارا جانے والا بادام۔ الفَرِيك: چھلکے سے نکلا ہوا دانہ، وہ کھانا جو گھی میں ملا کر بنایا جائے۔ الـفَـرِيكِيَّة (ط): مقشر دانوں سے تیار کردہ کھانا۔ الـمُـفَـرَّكة (ط): متعدد شکلوں میں تیار کیا جانے والا کھانا۔ الـمَفرُوك من الثياب: بہت گہرا رنگا ہوا کپڑا۔ الـمَفرُوكة (ط): ایک مٹھائی جو میوے، گھی اور چینی سے تیار کی جاتی ہے اور اس پر ملا ہوا پستہ اور بادام لگائے جاتے ہیں۔ الـقملة المَفرُوكة: جلد اطاعت کرنے اور کمزوری کی ضرب المثل ہے۔

۲۔ فَرِكَ ـفَـرْكًـا و فِرْكًا و فُرُوكًا و فِرِكَّانًا هُ: سے بغض رکھنا۔ کہا گیا ہے کہ یہ میاں بیوی کے بغض کے لئے مخصوص ہے۔ فارَكَ مُفارَكَةً هُ: ایک دوسرے کو چھوڑ بیٹھنا۔ الفِرْك: عموماً بغض، میاں بیوی کا بغض۔ امـرأة فـارِك (فا) جمع فَوَارِك: شوہر سے بغض رکھنے والی عورت۔ المُفَرَّك: مبغوض، چھوڑا ہوا۔

۳۔ فَرِكَ ـفَرَكًـا ت الأُذُنُ: کان کی جڑ کا ڈھیلا ہونا۔ صفت: فَرِكَة و فَرْكَاء۔ تَفَرَّكَ: رفتار یا گفتگو میں اٹکنا۔ کہا جاتا ہے: اِنْفَرَكَ منكبُ فلان: فلاں کا مونڈھا اتر گیا۔ الـمَفْرُوك (مفع) من الإبل: وہ اونٹ جس کے مونڈھے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہوں۔

○ فَرَكَ ـفَـرْكًا هُ: کو ملنا، کو رگڑنا۔ فَرَّكَ هُ: کو ملنا، کو رگڑنا۔ تَفَرَّكَ: رگڑا جانا۔ اِنْفَرَكَ: رگڑا یا ملا جانا۔ فَرِيك: رگڑا ہوا، ملا ہوا، پکائی ہوئی سبز گندم۔ مِفْرَاك: تیزی سے گھومنے والی لاٹھی۔

فرم: افَرَمَ ـفَرْمًا التبغَ واللحمَ: تمباکو یا گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔ فَرَمَ الولدُ: بچے کا نئے دانت نکالنا (عام زبان میں)۔ أَفْرَمَ الإناءَ: برتن کو بھرنا۔ الـفَرْمَة جمع فَرَمات: گوشت، تمباکو وغیرہ کا چھوٹا ٹکڑا (عام زبان میں)۔ الأَفْرَم: گرے ہوئے دانت والا۔

۲۔ الـفَـرامِل: (انگریزی الاصل لفظ)۔ جو فَرَان جمع فَـرَانـات بھی کہلاتا ہے، جو فرانسیسی لفظ ہے: بریک (گاڑیوں کو آہستہ یا کھڑا کرنے کا آلہ)۔

۳۔ الـفَرمان جمع فَرامِين: شاہی فرمان (حکام کے لئے) (فارسی لفظ)۔

○ فَرَمَ ـفَـرْمًا هُ: (گوشت، تمباکو) کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، (گوشت کا) قیمہ کرنا، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرنا۔ فَرَّمَ بمعنی فَرَمَ۔ مِفْرَمَة: قیمہ بنانے والی مشین۔ مَـفْـرُوم۔ دخانٌ مَفْرُوم: اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا تمباکو۔ لحمٌ مَفْرُوم: (گوشت کا) قیمہ۔ فُـرْمَة جمع فُـرَم: سانچہ، قالب۔ فَـرَمْبُواز: رس بھری (raspberry)۔ فِـرْمَسُون: فری میسن free mason۔ (خفیہ جماعت (دراصل مسیحی) کا رکن)۔ فَـرْمَلَة جمع فَرامِل: (گاڑی وغیرہ کا) بریک۔ فَرْمَلَ سيارةً: کار کو بریک لگانا (آہستہ کرنا، کھڑا کرنا)۔ فَرْمَلْجي جمع فرملجية: بریک لگانے والا brake man۔ فَرْمُوزا: فارموسا Formosa۔ ایک ملک کا نام۔

فرن: ا۔ الـفُرْن جمع أَفْرَان: تندور کے علاوہ وہ جگہ جو روٹی پکانے کے لئے بنائی گئی ہو (لاطینی لفظ)۔ الفَرَّان: منتظم مطبخ، روٹی پکانے والا۔ الفارِنَة: روٹی پکانے والی۔ الـفُرْني (واحد فرنِيَّة): موٹی گول روٹی، سخت بدن کا آدمی۔

۲۔ الـفِرِنْد جمع فَرائِند: انار کا دانہ، تلوار، جوہر تلوار، تلوار کے نقش ونگار۔ کہا جاتا ہے: سيفٌ فِرِنْدٌ: بے

مثل تلوار، ایک قسم کا کپڑا (یہ فارسی لفظ برند کا معرب ہے)۔ الإفرند جمع أفرندات: جوہر تلوار، تلوار کے نقش ونگار۔

۳۔ تفرنس الرجلُ: فرانسیسی ہو جانا، فرانسیسی اخلاق و اطوار اختیار کر لینا، فرانسیسی عادات اختیار کر لینا۔ صفت: مُتفرنس جمع متفرنسون۔

۴۔ الفرنك جمع فرنكات: ایک معروف سکہ franc

○ فُرن جمع أفران: تنور oven, baking oven۔ فرّان: بھٹیارا، نان بائی، بیکری والا baker۔

تفرنج: یوروپین ہو جانا، یوروپی اطوار اختیار کرنا، یوروپینوں کی نقالی کرنا۔ الإفرنج: یوروپی لوگ۔ بلادُ الافرنج: یوروپ۔ أفرنجي: یوروپین۔ الأفرنجي: آتشک، گرمی (syphilis)۔ فرنجة: فرانکوں کی سرزمین، یوروپ۔ تفرنج: یوروپی رنگ میں رنگا ہونا، یوروپینوں کی نقالی، تقلید۔ مُتفرنج: یوروپین بنا ہوا۔ فِرند: نہایت خوشنما کاریگری والی تلوار۔ فرندة جمع فرندات: برآمدہ (veranda)، بیرونی ڈیوڑھی، پیش دہلیز (porch)۔ فرنس فرنسة ہ: کو فرانسیسی بنانا، کو فرانسیسی تہذیب کا رنگ چڑھانا۔ تفرنس: فرانسیسی ہو جانا، فرانسیسیوں کی نقالی کرنا۔ فرنسا و فرنسة: فرانس France۔ فرنسي: فرانسیسی (جمع فرنسیون): ایک فرانسیسی۔ فرنساوی و فرنسوی: فرانسیسی۔ الفرنسیس: فرانسیسی The French۔

فره: ۱۔ فرِهَ ـ فرَهًا: خوش ہونا، اکڑنا۔ صفت: فرِه۔ فرُهَ ـ فراهة و فروهة و فراهية: ماہر ہونا، حاذق ہونا؛ خوش ہونا، سبک ہونا۔ صفت: فارِهٌ۔ أفرهَ الرجلُ: چست و چالاک غلام حاصل کرنا۔ استفرهَ الدوابَّ: عمدہ جانور چھانٹنا۔ الفارِهُ: چست، پھرتیلا، تیز۔ الفارهة جمع فوارِهُ و فُرَّهٌ: الفاره کا مونث: خوبصورت جوان لڑکی۔ الفراهة و الفراهية و الفروهة: مہارت، حسن، جمال، خوبصورتی، زندہ دلی، مہارت، کاریگری۔ الأفرهُ: کھلا ماہر، چالاک۔

۲۔ الفارِهُ: خوب کھانے والا۔ کہا جاتا ہے: رجل فارِهٌ و جاریة فارِهةٌ۔ جمع فُرُهٌ و فُرْهَةٌ و فُرُهَةٌ و فَرِهَةٌ و فُرَّهٌ: خوب کھانے والا آدمی یا لڑکی۔

۳۔ فرهَدَ: پھولنا۔ ـ ت نفسُهُ: تنگ دل ہونا۔ تفرهد الغلامُ: لڑکے کا موٹا ہونا۔ الفُرهُد و الفرهَد: گول مٹول خوبصورت لڑکا۔ الفُرهُود: گول مٹول خوبصورت لڑکا۔ ـ جمع فراهید (ح): بکری یا پہاڑی بکری کا بچہ۔

○ فَرِهٌ: زندہ دل، بشاش، شگفتہ مزاج، پھرتیلا، تیز۔ فراهة: زندہ دلی، شگفتہ مزاجی، پھرتیلا پن، تیزی (جانور کی)، ہٹا کٹا ہونا۔ فارِهٌ: زندہ دل، پھرتیلا، تیز (جانور) حسین، خوبصورت، خوش انداز، ہٹا کٹا، موٹا تازہ، قوی ہیکل، بڑا۔

فرو: ۱۔ فَرّى تفرية الجُبّةَ: جبہ پر پوستین لگانا۔ إفترى الفروَ: پوستین پہننا۔ الفرو جمع فِراء: وہ پوستین جس کا اندرونی حصہ بعض جانوروں کی کھالوں سے تیار کیا جاتا ہے، جیسے خرگوش اور سمور۔ الفروة: بالوں سمیت سر کی کھال (کہا جاتا ہے: ضربه على أُمّ فروته: اس نے اس کی کھوپڑی پر مارا) عورت کا سربند، اونٹ کے بالوں سے تیار کردہ چادر، تاج مال و دولت، فقیر کی جھولی۔ جمع فِراء: پوستین۔ الفرّاء: پوستین ساز۔

۲۔ فُروز فروزة: مرجانا۔

○ فَرو (اسم جمع واحد فروة) جمع فِراء: پوستین، پشم، کھال، پشم سمیت کھال، چمڑا۔ فروة الرأس: کھوپڑی۔ ابو فروة: شاہ بلوط۔ فرّاء: پوستین بنانے والا، پشم بنانے والا۔

فری: ۱۔ فری ـ فريًا الارضَ: زمین میں چلنا، زمین قطع کرنا۔ ـ البرقُ: بجلی کا آسمان میں چمکنا۔ ـ و فرّى الشيءَ: کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا۔ أفرى الشيءَ: کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، درست کرنا۔ تفرّى تفريًا و انفرى انفراءً: پھٹنا۔ کہا جاتا ہے: تفرّت الارضُ بالعيون: زمین میں چشمے پھوٹ نکلے۔ الفريّ مؤنث فريّة: پھٹا ہوا۔ ـ و الفريّ: بڑا ڈول۔ کہا جاتا ہے: الفريّة الفريّة: جلدی جلدی۔

۲۔ فرى ـ فريًا عليه الكذبَ: کے خلاف جھوٹ گھڑنا۔ ـ المزادةَ: توشہ دان بنانا۔ ـ إفترى عليه الكذبَ: پر جھوٹ باندھنا۔ فرية: فری سے اسم مرۃ۔ الفرية جمع فِرًى: جھوٹ گھڑا ہوا جھوٹ۔ الفِرى: گھڑی ہوئی اور بناوٹی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے: هذا أفرى الفِرى: یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ جھوٹوں کا جھوٹ ہے۔

۳۔ فَرِيَ ـ فرًى: دہشت زدہ اور متحیر ہونا۔ الفرا: عجیب شیء۔ الفريّ: عجیب، تعجب خیز۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ يفري الفريَّ: فلاں شخص تعجب خیز اور حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: لقد جئت شيئًا فريًّا: یعنی تم نے ایسا کام کیا، جس سے حیرت و تعجب ہوتا ہے۔

۴۔ أفرى فلانًا: کو ملامت کرنا۔

۵۔ الفرا: بزدل۔ الفرية: شور و غل۔ الفِرية جمع فِرًى: تہمت۔

○ فَرى ـ فريًا ہ: کو لمبائی کے رخ پھاڑنا، کاٹنا، کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کا قیمہ کرنا۔ ـ علی ہ: کے خلاف کوئی جھوٹ اختراع کرنا، گھڑنا، یا بنانا۔ ـ کذبا علی: کے خلاف جھوٹ گھڑنا یا اختراع کرنا۔ فَرّى ہ: کو لمبائی کے رخ پھاڑنا؛ کاٹنا۔ أفرى بمعنی فرّى۔ إفترى علی ہ: کے خلاف جھوٹ اختراع کرنا، گھڑنا یا بنانا۔ ـ علی: پر بہتان باندھنا، سے ناانصافی کرنا، کے خلاف ہتک عزت والی تحریر شائع کرنا، کے خلاف طوفان باندھنا، کی بدگوئی کرنا، کو بدنام کرنا، کو متہم کرنا۔ فِرية جمع فِرًى: جھوٹ، دروغ، کذب، بہتان، تہمت، اتہام، افتراء۔ أتى (یا جاء) شيئًا فريًّا: ایسا کام کرنا جو کبھی سننے میں نہ آیا ہو، ایسا کام کرنا جس کی کوئی نظیر نہ ہو۔ مِفراة و مِفرمة: قیمہ کرنے والی مشین۔ إفتراء: جھوٹ دروغ، کذب، بہتان، تہمت، اتہام۔ مُفترٍ: بہتان اور تہمت لگانے والا، بدگوئی کرنے والا، بدنام کرنے والا۔ مُفتريات: جھوٹی باتیں، تہمتیں، اتہامات۔

فز: ۱۔ فَزَّ ـ فزًّا الظبيُ: ہرن کا گھبرانا۔ ـ ہُ: کے ہوش اڑا دینا، کو حواس باختہ، پریشان کرنا۔ ـ ہ عن مكانه: کو حواس باختہ اور پریشان کرنا، کو اس کی جگہ سے نکال دینا۔ ـ فلانٌ (عند العامة): اچھلنا، کودنا۔ ـ فزازة و فزوزة: مضطرب ہونا، بھڑک اٹھنا۔ أفزّهُ: کو حواس باختہ کر دینا، پریشان کرنا۔ استفزّهُ: کو مضطرب کرنا، پریشان کرنا، کو اس کے گھر سے نکالنا اور پریشان کرنا۔ ـ هُ الخوفُ: کو خوف کا بے خود کر دینا۔ ـ هُ من الشيءِ: کو سے نکال دینا۔ الفزّ (مص) جمع أفزاز: ہلکا پھلکا آدمی (ح): نیل گائے کا بچہ۔ الفزّة: اضطرابی حالت میں کودنا۔ کہا جاتا ہے: قعد مستفزًّا: وہ غیر مطمئن ہو کر بیٹھا۔

۲۔ فزّ ـ فزًّا ہ: کو دھوکا دے کر اس پر غالب ہونا۔ افتزّ علیه: پر غالب ہونا۔ تفازّ الرجلان: ایک دوسرے کے مقابلہ کیلئے میدان میں آنا۔ استفزّہ: کو قتل کر دینا۔

۳۔ فزّ ـ فزًّا: اکیلا ہونا۔ ـ عنه: سے جدا ہونا، مڑ جانا۔

۴۔ فزّ ـ فزيزًا الجرحُ: زخم سے خون و پیپ بہنا۔

○ فزّ ـ فزًّا: اچھل پڑنا، چونک اٹھنا، بدکنا، بھڑکنا، بھاگ نکلنا، ڈرا ہوا ہونا یا ہو جانا، دہشت زدہ ہونا یا ہو جانا، حواس باختہ ہونا یا ہو جانا۔ أفزّ ہ: کو ڈرانا، ڈرا دینا، چوکس کرنا، دہشت زدہ کرنا، گھبرا دینا۔

ہ/ ہ عن: کو سے خائف کرنا، سے ڈرا کر بھگا دینا۔ تَفَزَّزَ: بے چین و مضطرب ہونا۔ اِستَفزَّہ: کو بے چینی یا اشتعال سے بھر دینا، کو ابھارنا، برانگیختہ کرنا، مشتعل کرنا، میں ہیجان پیدا کرنا، کو بے چین کرنا، میں اضطراب پیدا کرنا، کو جوش میں لانا، کو اکسانا، ابھارنا، شہ دینا، برافروختہ کرنا۔ — ہ: کسی واقعہ کا باعث بننا۔ — ہ عن: کو حواس باختہ کر کے سے نکال دینا۔ — ہ من: کو جوش میں لا کر سے نکالنا، کو سے اٹھانا۔ فَزَّۃ: بدکنا، بھڑکنا، چونک اٹھنا، خوف سے اچھل پڑنا، فرار، تیز حرکت۔ استفزاز جمع استفزازات: ترغیب، انگیخت، تحریک، اضطراب و اشتعال، اشتعال انگیزی، اشتعال انگیز بات۔ اِستِفزَازِی: اضطراب و ہیجان انگیز، اکسانے والی، شہ دینے والی (بات وغیرہ) اشتعال انگیز، ہجوم کو بھڑکانے والی، آگ لگانے والی (بات واقعہ وغیرہ)۔

فزر: ا۔ فَزَرَ ـفَزْرًا ہُ: کو پھاڑنا، فسخ کرنا، توڑنا۔ — ہُ بالعصا: کی پیٹھ پر لاٹھی سے مارنا۔ — الشیءَ من الشیء: ایک کو دوسری چیز سے الگ کرنا۔ — فُزُورًا: پھٹنا۔ فَزَّرَ و افزَرَ الشیءَ: کو ریزہ ریزہ کر دینا۔ — تفزّر و انفَزَرَ: پھٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ — الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ الـفِـزْرُ: بکریوں کا چھوٹا سا ریوڑ: کہا گیا ہے کہ دس سے چالیس تک بکریوں کا ریوڑ۔ ران کے اوپر کے حصہ کی غدود۔ الـفَـزَرُ: شگاف و درزیں، دراڑیں، گویا کہ فِزرَۃ کی جمع ہو۔ الفُزُور: درزیں، دراڑیں، شگاف۔ الفزرۃ جمع فُزَر: کشادہ راستہ۔ الـفَـازِر (فا): طویل کشادہ راستہ۔ الفارِزَۃ: فارز کا مونث: ریگستان کا راستہ۔

۲۔ فَزِرَ ـفَزَرًا: کی پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ پڑ جانا۔ صفت: أفزَر۔ الـفُـزْرَۃ جمع فُزَر: پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ۔ الأفزَر: جس کی پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ پڑ گئی ہو۔ الفزراء جمع فُزْر: الافزر کا مؤنث۔ الـمَفزُور (مفع): بمعنی الأفزَر، کبڑا۔

۳۔ الـفِـزْر (ح): بکری کا بچہ، ببر شیر کا بچہ، جڑ۔ الـفَـازِر (ح): کالی چونٹی جس میں سرخی ہو۔ الفزارۃ: چیتے کی مادہ (یہ مؤنث مِنْ غیرِ لفظِہ ہے)۔ الفَزْراء جمع فُزْر: پُرگوشت عورت۔ قریب البلوغ لڑکی۔

○ فَزُّورَۃ جمع فَوَازِیر: معما، پہیلی، لغز۔

فزع: ا۔ فَزَعَ ـفَزْعًا و فِزْعًا منہ: سے خوف کرنا۔ فَزِعَ ـفَزَعًا: دہشت زدہ ہونا، خائف ہونا۔ افزَعَ ہُ: کو خوفزدہ کرنا، کا خوف دور کرنا (ضد)۔ — عنہ: سے گھبراہٹ زائل کر دینا۔ الفَزَع (ص): گھبراہٹ۔ الفُزْعَۃ: وہ شخص جس سے لوگ گھبرائیں۔ الفُزَعَۃ: جو شخص لوگوں سے بہت گھبراتا ہو۔ الـفَـازِع جمع فَزَعَۃ و الـفَـزِع و الـمُفَازِع: خائف، ترساں۔ الـفَـزَّاعۃ: بہت گھبرانے والا وہ شخص جو لوگوں کو بہت گھبرا دے۔ دھوکا (کاٹھ کا جعلی آدمی جسے کھیتوں میں جانوروں کو ڈرانے کے لئے نصب کیا جاتا ہے)۔ عام لوگ اسے فـزّیعۃ کہتے ہیں۔ الـمُـفَـزَّع: بزدل، بہادر (ضد)۔

۲۔ فَزِعَ ـفَزَعًا الیہ: سے فریاد چاہنا، کی پناہ لینا۔ — الرجُلَ: کی فریاد رسی کرنا، کی مدد کرنا۔ افزَعَ القوم: کی فریاد رسی کرنا۔ الـفَـزَع: فریاد رسی۔ الـفَـازِع جمع فَزَعَۃ و الـفَـزِع و الـمُفَازِع: فریادی۔ الـمَـفْزَع و المَفْزَعۃ: پناہ گاہ، جائے پناہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مَفْزَعٌ او مَفْزَعۃ للناس: فلاں شخص لوگوں کیلئے جائے پناہ ہے۔ یعنی جب ان کو اچانک کوئی مہم درپیش ہو جاتی ہے تو اس کے پاس گھبرائے ہوئے آتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں۔ (یہ دونوں لفظ واحد جمع مذکر اور مونث کے لئے آتے ہیں)۔

۳۔ فَزِعَ ـفَزَعًا من نومِہ: نیند سے اٹھ کھڑا ہونا۔ — فَزَعًا لمجیءِ فلان: کے آنے کی وجہ سے تیار ہونا۔ افزَعَہُ من نومہ: کو نیند سے جگانا۔

○ فَزِعَ ـفَزَعًا و فَزَعَ ـفَزْعًا و فِزعًا من: سے خائف ہونا، ڈرنا۔ — من/ل: سے ڈرا ہوا ہونا، دہشت زدہ ہونا، گھبرا جانا۔ فَزِعَ ـفَزَعًا الی: کے پاس پناہ لینا، کی طرف فرار ہو جانا، کے پاس پناہ کا طالب ہونا۔ فَـزَّعَ ہُ: کو خوفزدہ کرنا، گھبرا دینا، خائف کرنا، ڈرانا، دہشت زدہ کرنا، حواس باختہ۔ افزَعَ ہ: کو دہشت زدہ کرنا، حواس باختہ کرنا، ڈرانا۔ تفزَّعَ: دہشت زدہ ہو جانا، حواس باختہ ہو جانا، ڈر جانا۔ تـفـزَّع من نومہ: نیند سے بیدار ہو جانا۔ فَـزَع جمع أفزاع: خوف، سخت خوف، دہشت، ہیبت، اندیشہ، خوف، کھٹکا، ہول، پریشانی، سراسیمگی، یاس، خرف، استعجاب، خوف و ہراس، بیجا خوف و ہراس کی لہر۔ فَـزِع و فـزْعَان: دہشت زدہ، خوف زدہ، ڈرا ہوا، سہما ہوا، بزدل، ڈرپوک، بودا۔ فـزّاعَۃ: خوف پیدا کرنے والا، کھیت کا اُچکا scarecrow۔ مَـفْـزَعَۃ: کھیت کا اچکا۔ مَفزَعَۃ و مفزع: جائے پناہ، گوشہ تنہائی، دامن، ملجا۔ مُفْزِع: خوفناک، ہولناک، دہشتناک، دہشت انگیز۔ مُفْزَع: ڈرا ہوا، دہشت زدہ، خوف زدہ، بدحواس، حواس باختہ، گھبرایا ہوا۔

فسّ: الفُسْفُس و الفُسفاس جمع فَسَافِس و فَسَافِیس: احمق۔ (ن): ایک بدبودار پودا۔ الـفَسَافِس (ح): کھٹمل۔ الـفِسْفِسَۃ (ن): دیکھو الـفِـصْـفِـصَۃ۔ الفَسْفُوسَۃ (عند العامۃ): مہاسا، کیل۔ الـفُسَیفِساء: سنگ مرمر وغیرہ کے رنگ برنگ کے چھوٹے ٹکڑے جن کو جوڑ کر مختلف شکلیں اور قسم قسم کی صورتیں بنا لیتے ہیں۔ پچی کاری، پچی کاری کا کام۔

فسأ: ا۔ فَسَأ ـفَسْأً ہُ: کو لاٹھی سے مارنا۔ — و فَسَّأَ تَفْسِیئًا و تَفْسِئَۃً الثوبَ: کپڑا اپھاڑنا۔ تَفَسَّأَہُ: کو لاٹھی سے مارنا۔ — الثوبُ: کپڑے کا پھٹ جانا اور بوسیدہ ہو جانا۔

۲۔ فَسَأ ـفَسْأً ہُ عن کذا: کو سے روکنا۔

۳۔ فَسِئَ ـفَسَأً: ابھرے ہوئے سینہ اور دھنسی ہوئی پیٹھ والا ہونا۔ ابھرے ہوئے پیٹ والا ہونا، صفت: أفْسَأ مونث فَسْآء۔ تـفـاسَأ تفاسُؤًا الرجُلُ: پیٹھ اور سرین کو نکالنا، ظاہر کرنا۔

۴۔ تفسّأ المرض فیھم: بیماری کا لوگوں میں پھیل جانا۔

فست: ا۔ الـفُسْتَق و الفُسْتُق (ن): پستہ کا درخت۔ فُسْتُقُ العبید: ایک پودا۔ اس کے بیج مزے سے کھائے جاتے ہیں اور ان سے تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ الفُستُقِی: پستہ رنگ کا۔

۲۔ الفُسْتَان ج فَسَاتِین و الفُسْطَان جمع فَسَاطِین: عورتوں کا ایک لباس بمنزلہ قبا کے۔ (فارسی لفظ)۔

○ فُستان جمع فساتین: عورتوں کا ایک لباس۔ فراک، گون gown, frock۔

فسج: فَسَّجَ: پیشاب کرنے کے لئے ٹانگیں پھیلانا۔ افْسَجَ عنہ: کو ترک کر دینا۔

فسح: ا۔ فَسَحَ ـفَسْحًا: کشادہ قدم رکھنا۔ — فَسْحًا و فُسُوحًا لہ فی المجلس: کو مجلس میں جگہ دینا۔ فَسُحَ ـفَسَاحَۃً المکانُ: جگہ کا وسیع ہونا صفت: فَسِیح و فُسَاح و فُسُح اور کی زیادتی سے فُسُحم مبالغہ کے لئے۔ فَسَّحَ المکانَ: جگہ کو وسیع کرنا۔ فَسَّحَ لہ فی المجلس: کیلئے مجلس میں جگہ پیدا کرنا، کو مجلس میں جگہ دینا۔ افْسَحَ المکانُ: جگہ کا وسیع ہونا۔ تفسَّحَ: وسیع ہونا۔ — لہ: کیلئے کشادگی کرنا۔ — القوم فی المجلس و تفاسحوا: مجلس میں کھل کر بیٹھنا۔ اِنفَسَحَ صدرُہُ: کا سینہ کھلنا، کشادہ دل ہونا۔ — المکانُ: جگہ کا کشادہ ہونا۔ — طَرْفُہُ: دور تک دیکھنا۔ الـفُسْحَۃ جمع فُسَح: گنجائش۔ مکانوں وغیرہ کے درمیان کھلی جگہ۔ الفِیسَحَی: دونوں قدموں کے درمیان فاصلے کا بعید ہونا۔ کہا جاتا ہے: ھو یمشی الفِیسَحَی: یعنی،،

کشادہ قدم رکھ کر چلتا ہے۔

۲۔فَسَحَ ـفَسْحًا له فی السفر: کو پروانۂ راہداری دینا۔ الفَسْح (مص): سفر کے لئے اجازت نامہ، پاسپورٹ وغیرہ وغیرہ۔

○ فَسُحَ ـفُسْحَةً و فَسَاحَةً: وسیع، کھلا، کشادہ، فراخ یا کافی جگہ (یا گنجائش) والا ہونا یا ہو جانا۔ فَسَحَ ـ فَسْحًا فی/ہ: کے لئے میں جگہ بنانا، کیلئے میں جگہ صاف کرنا۔ فَسَّحَ ہ: کو چوڑا کرنا، کھلا کرنا، کشادہ کرنا، فراخ کرنا، وسیع کرنا، چوڑا کرنا، لمبا کرنا، بڑا کرنا، پھیلانا۔ ــــ له: کے لئے جگہ بنانا، کیلئے جگہ صاف کرنا۔ فَسَّحَ مجالا له: کیلئے جگہ بنانا، کو پوری آزادی دینا، کو موقع فراہم کرنا۔ فَسَّحَ له الطریقَ: کیلئے راستہ کھولنا، کے لئے راہ ہموار کرنا۔ اَفْسَحَ ہ ل: کو کیلئے کھول دینا۔ تَفَسَّحَ: وسیع، فراخ، کشادہ، یا گنجائش والا ہونا، سیر کرنا، چہل قدمی کرنا۔ اِنْفَسَحَ: کھلا، وسیع، فراخ کشادہ، گنجائش والا ہونا پھیلنا، بڑھنا، چوڑا ہونا، وقت کا خالی یا بہت ہونا۔ اِنْفَسَحَتْ لی الاوقاتُ: میرے پاس کافی وقت تھا۔ فَسَحَة جمع فَسَحات: پیش دالان، ڈیوڑھی، مکانوں کے درمیان کھلی جگہ۔ فسیح: چوڑا بہت کشادہ، وسیع، فراخ، کافی جگہ یا گنجائش والا، بڑا۔ اِنْفساح: چوڑائی، کشادگی، فراخی، وسعت، پھیلاؤ۔ مُنْفَسَحَ: چوڑائی، کشادگی، فراخی، ہموار سطح، سطح۔ ما زالَ فی الوقت فُسْحَةٌ: ابھی وقت ہے۔

فسخ: افَسَخَ ـفَسْخًا: جاہل ہونا، ضعیف العقل ہونا۔ ــــ رایَ فلانٍ: کی رائے کو فاسد کر دینا۔ ــــ الرایُ: رائے کا فاسد ہونا۔ ــــ الامرَ او العقدَ: بات یا عقد کو توڑ دینا۔ فَسِخَ ـفَسَخًا الرایُ: رائے کا فاسد ہونا۔ فَاسَخَہُ العقدَ او البیعَ و تَفَاسَخَا العقدَ او البیعَ: سے عقد یا بیع کے توڑنے پر متفق ہونا۔ کہا جاتا ہے: تفاسخت الاقاویلُ: اقوال متناقض ہو گئے۔ اِنْفَسَخَ العزمُ او العقدُ: ارادہ یا معاملہ کا ٹوٹ جانا۔ الفَسْخ و الفَسِیخ: کمزور عقل یا بدن والا۔ وہ شخص جو اپنی ضرورت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو اور اپنے امور کا صحیح انتظام نہ کر سکے۔ وہ کمزور شخص جس کا ارادہ شدت کے وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ الفَسْخَة: فسخ کا اسم مرہ۔ رجلٌ فَسْخَةٌ: کمزور عقل یا جسم والا آدمی۔

۲۔فَسَخَ ـفَسْخًا العُودَ او المَفْصَلَ: لکڑی یا جوڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ ــــ الثوبَ عنه: اس سے کپڑا اتار کر پھینک دینا۔ ــــ الشیءَ: کو جدا جدا کرنا۔ فَسَّخَہُ: کو فسخ کرنے میں مبالغہ کرنا۔ تَفَسَّخَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ ــــ الشَعَرُ عن الجلد: بالوں کا کھال سے جھڑ جانا، گر جانا (یہ میت کے لئے خاص ہے)۔ الفَسْخ (عند غلاة اصحاب التناسخ): اواگون کے ماننے والوں کے نزدیک: انسان کے جسم سے روح ناطقہ کا نکل کر حشرات میں چلا جانا یا دھاتوں اور عناصر میں منتقل ہو جانا، تناسخ یعنی اواگون۔ الفسخة: فسخ شدہ کا ایک ٹکڑا۔ الفسیخ (ط): نمک لگا کر محفوظ کی ہوئی مچھلی۔

۳۔ اَفْسَخَ الکتابَ: کو بھول جانا۔

○ فَسَخَ ـفَسْخًا ہ: (جوڑ) الگ کر دینا؛ کو جدا کرنا، منقطع کرنا، کاٹ ڈالنا، پھاڑنا، چیرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا؛ کو منسوخ کرنا، ختم کرنا، کالعدم قرار دینا، فسخ کرنا، چھوڑنا، چھوڑ دینا۔ فَسِخَ ـفَسَخًا: رنگ اڑنا، رنگ پھیکا پڑ جانا۔ فَسَّخَ ہ: کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھاڑ کر الگ کر دینا، چیرنا، پھاڑنا، (مچھلی) کو نمک لگانا۔ تَفَسَّخَ: ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، الگ ہو جانا، ختم ہونا۔ اِنْفَسَخَ: منسوخ ہونا، فسخ ہونا، کالعدم ہونا، خالی ہونا۔ فَسْخ: منسوخی، فسخ، تنسیخ، خاتمہ، خالی ہونا۔ فَسْخِی: منسوخی سے متعلق۔ فَسْخَة: چھپٹی، چھیلن، ٹکڑا، ریزہ، قاش۔ فسیخ: چھوٹی نمک لگی مچھلی۔ مُتَفَسِّخ: ناخلف، کپوت، شرافت اور اخلاقی لحاظ سے گرا ہوا، بگڑا ہوا۔

فسد: فَسَدَ ـِ فَسُدَ ـفَسَادًا و فُسُودًا: خراب ہونا، بگڑ جانا۔ یہ صَلُحَ کی ضد ہے۔ صفت فَسِید جمع فَسْدَی و فَاسِد۔ فَسَّدَ و اَفْسَدَہُ: کو خراب کرنا، بگاڑنا۔ فَاسَدَ القومَ: قوم کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر لوگوں کا اس پر بگڑنا۔ الفساد (مص): لہو ولعب، کھیل کود، ظلما مال لینا۔ المَفْسَدَة جمع مَفَاسِد: منبع فساد یا سبب فساد۔ تَفَاسَدَ القومُ: قطع رحمی کرنا اور آپس میں مخالفت و دشمنی ہو جانا۔ اِسْتَفْسَدَ: فساد چاہنا۔ یہ استصلح کی ضد ہے۔ اِسْتَفْسَدَ القومَ: قوم سے بدمعاملگی کر کے اپنا مخالف و دشمن بنا لینا۔

○ فَسَدَ ـفَسَادًا و فُسُودًا: برا ہونا یا ہو جانا، گلا سڑا ہونا یا ہو جانا، خراب اور بگڑا ہوا ہونا یا ہو جانا، خراب اور بگڑی ہوئی عادتوں والا ہونا، آوارہ ہونا یا ہو جانا، شرمناک عادت والا ہونا یا ہو جانا، گنہگار، فاسق، بداعمال، یا بدطینت ہونا یا ہو جانا، بدچلن، بداطوار یا بدعنوان ہونا یا ہو جانا، بدکار اور فاجر ہونا یا ہو جانا، کمزور ہونا یا ہو جانا، بری یا غلط راہ پر ڈالا ہوا ہونا یا ہو جانا، خالی ہونا، بیکار ہونا یا ہو جانا، ناکارہ ہونا یا ہو جانا، غلط ہونا، جھوٹا ہونا۔ فَسَّدَہ/ہ: کو بگاڑنا، خراب کرنا، تباہ کرنا، کے اخلاق بگاڑنا، کو بداخلاق بنانا، پست اخلاق کرنا؛ کو نگاہوں سے گرانا، ذلیل کرنا، کو دھبا لگانا، داغ لگانا، کلنک کا ٹیکا لگانا، کی چمک ختم کرنا، کو داغدار کرنا، کو میلا کرنا، کی بے حرمتی کرنا۔ اَفْسَدَہ/ہ: کو بگاڑنا۔ ــــ ہ/علی: کا منصوبہ وغیرہ خراب کرنا۔ ــــ ہ/ہ: کو بگاڑنا، خراب کرنا، کا غلط یا بے جا استعمال کرنا، کو غلط راستے پر ڈالنا، کو بری راہ پر لگانا، کا اخلاق بگاڑنا، کو بدل کر دینا یا بنا دینا، کی حالت پست کرنا۔ ــــ ہ: کو بگاڑنا، خراب کرنا، کا ستیاناس کرنا، کی شکل بگاڑنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کی قیمت گرانا یا گھٹانا، کی کم قدری کرنا۔ ــــ ہ علی: کے لئے کی قدر و قیمت گھٹانا، کو بے وقعت کرنا، کے لئے کو ذلیل کرنا۔ ــــ ہ: کو کمزور کرنا، کی جڑیں کھوکھلی کرنا، کو درہم برہم کرنا، الٹ دینا، میں گڑبڑ مچانا، کو تباہ کرنا، برباد کرنا، کو ناکام بنا دینا، کو بے اثر کرنا۔ ــــ ہ علی: کو سے برگشتہ کرنا، کو سے منحرف کرنا، کو سے بیگانہ کرنا۔ ــــ علی ہ: کو سے برگشتہ کرنا، کو سے ورغلا یا پھسلا کر لیجانا۔ ــــ بین: کے مابین نااتفاقی، ان بن یا نزاع، یا اختلاف رائے بھڑکانا یا نااتفاقی اخلاف رائے وغیرہ کا بیج بونا۔ اَفْسَدَ: برا یا بد کام کرنا، بدطینتی سے کام یا عمل کرنا، نقصان کا باعث بننا۔ اَفْسَدَ علیه امرَہُ: کے ساتھ بری چال چلنا۔ اِنْفَسَدَ: بمعنی فَسَدَ۔ فَسَاد: سڑاند، بگاڑ، خرابی، بدعنوانی، رشوت ستانی، بوسیدگی، تباہی، تنزلی، گلنا، سڑنا، تحلیل، فسق و فجور، سیاہ کاری، بدکاری، بداعمالی برائی، بدطینتی، ضرر رسانی، شرارت، بے انصافی، فحاشی، بداخلاقی، کمزوری، بے راہ روی، کجروی، غلطی (کسی قانونی معاملہ کی) ناتمامی، ادھورا پن۔ مَفْسَدَة جمع مَفَاسِد: بدعنوانی یا برائی کا سبب رسوا کن کام وحشیانہ کارروائی۔ مَفَاسِد: گندی چالیں، کینہ جو اعمال، قانونی حیلہ جوئیاں، حیلہ بازیاں یا استدلال۔ فی المَصْلِحَةِ و المَفْسَدَة: اچھے اور برے وقتوں میں، بہتر یا بدتر کیلئے۔ دور فَاسِد: برائی کا چکر، استدلال دوری۔ اِفْساد: ناکام بنانا، جڑیں کھوکھلی کرنا، تباہ کاری کرنا۔ فَاسِد جمع فَسْدَی: برا، گلا سڑا، بگڑا ہوا، بوسیدہ۔ فاسق فاجر، بدکار، بدچلن، بداطوار، بدعنوان، آوارہ، بد اعمال، گنہگار، بدطینت، شیطان، غیر اخلاقی، خالی، ناکارہ، بے کار، غلط، جھوٹا، نامکمل (قانونی سودا، مکالمہ)۔

فسر: فَسَرَ ـِفَسْرًا الامرَ: کو واضح کرنا، نرم کرنا۔ ــــ

السمُغطّى: ڈھکی ہوئی چیز کو کھولنا۔۔۔۔ فَسراً و تَفسِرَةً الطبیبُ: طبیب کا مریض کے قارورہ کو دیکھ کر اس کا حال معلوم کرنا۔ فَسَّرَہٗ: کو واضح کرنا، ظاہر کرنا۔ تَفَسَّرَ و استفسر فلاناً عن الامر و استفسرہُ الامرَ: کو (بات وغیرہ) واضح کرنے کو کہنا۔ التَفسِرَةُ (مص): مریض کا پیشاب جو اسکی بیماری کی تشخیص کے لئے ہو۔ قارورہ (لمبی گردن کی بوتل) جس میں مریض کا پیشاب لیجا کر تشخیص مرض کے لئے ڈاکٹر کو پیش کیا جاتا ہے) اسے دلیل بھی کہتے ہیں۔ تَفسِرَةُ الشیءِ: ہر وہ چیز جس سے استدلال کیا جائے۔ التفسیر (مص) جمع تفاسِیر: تاویل، پردہ ہٹانا، وضاحت، بیان، تشریح۔ حرفَا التفسیر: اَیْ و أن: اَیْ سے غیر واضح کی تفسیر کی جاتی ہے۔ جیسے: هذا عَسجَد اَی ذهَبٌ: یہ عسجد یعنی سونا ہے۔ أن سے قول کے معنی اور مراد کی تفسیر کی جاتی ہے۔ جیسے: نَادَیْتُكَ اَن افعَلْ كذا: میری نداء اور پکار کا مقصد تجھے اس کام کے کرنے کا حکم دینا تھا۔

○ فَسَّرَ ہ: کی وضاحت کرنا، تشریح کرنا، توجیہ کرنا، کی تفسیر کرنا، کو واضح کرنا، کی توضیح کرنا، کی مراد سمجھانا، ظاہر کرنا، سے مراد لینا، کا مطلب بیان کرنا، کا ترجمہ کرنا، پر رائے زنی کرنا۔ تَفَسَّرَ: واضح ہونا، کی وضاحت ہونا، کا مطلب بیان کیا جانا وغیرہ (دیکھئے فَسَّرَ) نیز: تَفَسَّرَ ب: میں کی وضاحت یا تشریح ہونا، کیساتھ، یا سے قابل توجیہ ہونا، قابل وضاحت ہونا۔ اِستَفسَرَ ہ ۔۔ مِن: کوئی وضاحت کرنے کے لئے کہنا، سے کے بارے میں دریافت کرنا، کو کے بارے میں پوچھنا۔۔۔۔ عن: کی تشریح طلب کرنا۔ تفسیر جمع تفاسیر: تشریح، توضیح، بیان، وضاحت، مطلب، مفہوم، ترجمانی، شرح، تفسیر (خصوصاً قرآن مجید کی)۔ تَفسِیری: توضیحی، واضح کرنے والا۔ مُفَسِّر: مفسر

فسط: ۱۔الفُسَّاط و الفِسطاط جمع فَساطیط: اون کا خیمہ۔ الفُسطاط جمع فَساطیط: خیمہ، اون کا خیمہ، قدیم مصر کا نام۔ الفَسِیط واحد فَسِیطَة: ناخن کا تراشہ۔

۲۔الفُسطان: دیکھو فستان۔

○ فُسطاط و فِسطاط جمع فساطیط: بالوں کے کپڑے سے بنا ہوا (بڑا) خیمہ، خیمہ، تماشائی خانہ، شہ نشین، سراپردہ، چتر، سائبان۔ الفُسطاط: آج کے قاہرہ کے جنوب میں قدیم اسلامی شہر۔ فُسطان جمع فساطین: بمعنی فستان۔ فُسفات: فاسفیٹ (phosphate)۔ فُسفر و تَفَسفَرَ: ضوافگن ہونا۔ to phosphoresce۔ فُسفُور: فاسفورس (phosphorus)۔ فُسفُس: (اسم جنس واحد فُسفُسَة) جمع فَسافِس: کھٹمل (bedbug)۔ فُسفُوسَة جمع فَسافیس: مہاسا، کیل۔

فسق: الفِسقَ ۔ُ و فَسُقَ ۔ِ فِسقاً و فُسوقاً: حق و صلاح کے راستہ سے ہٹ جانا، بدکار ہونا۔ صفت: فَاسِق جمع فَسَقَة و فُسَّاق و فاسِقُون مونث فَاسِقَة جمع فاسِقات و فَوَاسِق۔۔ و انفَسَقَ الرطبُ عن قشرہ: پکی کھجور کا چھلکے سے باہر نکل آنا۔ فَسَّقَ ہٗ: کی فسق کی طرف نسبت کرنا، کو گنہگار یا کافر قرار دینا۔۔۔۔ القاضی الشاهِدَ: قاضی کا گواہ کو ناقابل اعتبار قرار دینا۔ الفُسَق و الفَسَّاق و الفِسِّیق: ہمیشہ یا اکثر بدکاری کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: یا فُسَق: یعنی یاایها الفاسق: (اے بدکار) یہ لفظ نداء کے لئے مخصوص ہے جیسے خُبَث۔ فَسَاقِ: عورت کے لئے گالی ہے اور ندا ہی کی صورت میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے: یا فَسَاقِ بمعنی یا فاسِقَة: (اے بدکارہ)۔ الفُوَیسِقَة: فاسِقَة کی تصغیر (ح): چوہیا۔

۲۔الفِسقِیَّة جمع فَساقِیّ: حوض، وضو کرنے کی جگہ۔ الفاسِقِیَّة: پگڑی باندھنے کا ایک مخصوص طریقہ۔ کہا جاتا ہے: تَعَمَّمَ فلانٌ الفاسِقِیَّة: اس نے اس طرز پر عمامہ باندھا۔

○ فَسَقَ ۔ِ فِسقاً و فُسوقاً و فَسُقَ ۔ُ فِسقاً و فُسوقاً: صحیح راستے سے۔ بھٹک جانا۔۔۔۔ عن: سے انحراف کرنا، سے بچھڑنا۔ غیر قانونی کام کرنا؛ گنہگار ہونا، بداخلاقی کرنا، بدچلنی کی زندگی گزارنا۔۔۔۔ ب: کے ساتھ زنا کرنا۔ فَسَّقَ ہٗ: کو فاسق قرار دینا۔ فِسق: گنہگاری، آوارگی، اخلاقی سیاہ کاری؛ بدکاری، فسق و فجور۔ دُور الفِسق: چکلے، قحبہ خانے۔ فُسُوق: ظلم، بے انصافی۔ مَفسَقَة جمع مَفاسِق: چکلہ، قحبہ خانہ۔ فاسِق: کافر، گنہگار، آوارہ، عیاش، بدچلن، اوباش، لفنگا، غیر منصفانہ، بیجا مداخلت کرنے والا، قانون شکن، مجرم، زانی، بدکار شوہر، نیکی اور انصاف کی قانونی ضروریات پوری نہ کرنے والا۔ فِسقِیَّة جمع فِسقِیات و فَساقِی: کنواں، چشمہ۔

فسل: الفَسَلَ ۔ِ فَسلاً الصبیَّ: بچہ کا دودھ چھڑانا۔ افسَلَ و افتَسَلَ الفَسِیلَةَ: کھجور کے پودے کو اکھیڑ کر دوسری جگہ لگانا۔ الفَسل (مص) جمع أَفسُل و فُسُول و فِسال و فُسُل و فُسُولة و فُسَلاء و افسال: ٹہنی یا ٹہنی کا ایک حصہ جو پودے سے کاٹ کر گاڑی جاتی ہے، تاکہ نیا پودا بن جائے۔ الفُسَالَة من الحدید و نحوہ: لوہے وغیرہ کے وہ ریزے جو کوٹتے وقت زمین پر گر جاتے ہیں۔ الفَسِیلَة جمع فَسِیل و فَسائِل و جج فُسلان: کھجور کا پودا جو کہ ایک جگہ سے اکھیڑ کر دوسری جگہ لگایا جائے۔ ہر درخت کا قلم۔

۲۔فَسِلَ ۔َ و فَسُلَ ۔ُ فَسالَةً و فُسُولَةً و فُسِل: فرومایہ ہونا، کمینہ ہونا، بے مروت ہونا۔ الفَسل جمع افسُل و فُسُول و فِسال و فُسل و فُسُولة و فُسَلاء و افسال: بے مروت و جرأت کمزور شخص۔ الفِسل: احمق۔ الفُسُولة (مص): فتور۔ المَفسُول: بے مروت و جرأت کمزور شخص۔

۳۔فَسَّلَ و افسَلَ دَراهِمَهُ و متاعَهُ: دراہم اور سامان کو کھوٹا اور بے وقعت کرنا۔ الفَسل جمع أَفسُل و فُسُول و فِسال و فُسُل و فُسُولة و فُسَلاء و افسال: ہر ردی چیز۔ کہا جاتا ہے: دِرهَمٌ فَسلٌ و دَراهِمُ فُسُول: ردی درہم۔ المَفسُول: رذیل۔

○ فَسل جمع فُسُول: کمینہ، کم اصل، بدذات، پنچ، منکسر المزاج، عاجز، رذیل، کھوٹا، دھوکا دینے والا، فریبی، مکار۔ فُسُولة: کمینگی، کم اصلی، کمزوری۔ فَسِیلَة جمع فَسِیل و فَسائِل: (کھجور کی) پنیری، ننھا پودا، تخمی پودا، کونپل۔ فَسُولیا بمعنی فصولیا۔ فَسلَجَة: علم اعضاء، عضویات physiology۔ فَسلَجی: عضویاتی (physiologi (cal))۔

فسو: فَسَا ۔ُ فَسْواً و فُسَاءً: بلا آواز گوز کرنا۔ تَفَاسَی: اخراج ریاح کے لئے سرین اٹھانا۔ الفُسَاء (مص): بلا آواز کا گوز، پھسکی۔ الفَسوَة جمع فَسَوات: ایک مرتبہ کی پھسکی۔ فَسَواتُ الضباع (ن): کماۃ کی ایک قسم۔ کماۃ ایک گھاس ہے جس کو لوگ سانپ کی چھتری کہتے ہیں اور بعض بلاد میں کھمبی بولتے ہیں۔ الفاسِیَة و الفاسیاء جمع فَواسٍ (ح): گبریلا۔ الفَسُوّ و الفَسَّاء: بہت گوز کرنے والا۔ المَفسَی: دبر، گوز نکلنے کی جگہ۔

فسی: المفسیولوجیا او الفیزیولوجیا: علم وظائف الاعضاء (Physiology)۔

○ فِسیُولوجی: عضویاتی، ماہر عضویات (phsiological, physiologist)۔

فش: الفَشَّ ۔ُ فَشّاً: ڈکار لینا، کمزور سا پھونکنا۔۔۔۔ الوَطبَ: دودھ کے مشکیزہ کا سر بند کھول کر بھری ہوئی ہوا نکالنا، مشکیزہ میں موجود مکھن نکالنا۔۔۔۔ الناقَةَ:

اونٹنی کو جلدی سے دوہنا۔۔۔ بینَ القومِ: لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنا۔ خُلقَهُ فی فلان: پر غصہ کا اظہار کرنا جس کا سبب کوئی اور ہو، پر غصہ اتارنا۔ ۔ قلبَهُ: دل میں موجود غصہ اور رنج و تبغ کا اظہار کرنا (عام زبان میں)۔ فَشَّ السقاءُ: پانی کے مشکیزہ کا منہ کھل کر ہوا کا نکلنا۔ اِنْفَشَّ اللبنُ: دودھ جاری ہونا۔۔۔ ت الریحُ: مشک وغیرہ کا منہ اور تسمہ کھلنے سے ہوا کا خارج ہونا۔ الفَشُوش: ٹپکنے والی مشک۔ الفَشِیْش: آواز۔ فَشِیْشُ الأفعی: سانپ کی کھال کی آواز جو خشک زمین پر چلتے وقت نکلتی ہے۔

۲۔ فَشَّ ۔فَشًّا البابَ: دروازہ کو کسی تدبیر یا حیلہ سے کنجی کے بغیر کھولنا۔

۳۔ فَشَّ ۔فَشًّا الورمُ: سوج کا جاتا رہنا (عام زبان میں)۔ اِنْفَشَّ الجرحُ: زخم کی سوجن میں سکون اور کمی ہونا۔۔۔ الرجلُ عن الامر: کسی کام میں سستی اور کاہلی کرنا۔۔۔ ت علّةُ فلانٍ: کی بیماری کا زائل ہونا۔ الفَشّ (مص) و الفَشُوش: بے وقوف، کمزور رائے والا۔ الفَاشُوش: رائے اور ارادہ کا کمزور۔

۴۔ الفَشّ و الفَشُوش: باطل پر فخر کرنیوالا، موٹا کمبل۔ (ن): خَرُّوب نام کا درخت، گندے پانی رسنے کی جگہیں۔ الفَشَّاش: جیب تراش، چابیوں کے بغیر دروازے کھولنے والا۔ رجُلٌ مُنفَشُّ المنخرین: چھوٹے بانسہ اور پھولے ہوئے نتھنوں والا۔

۵۔ فَشْفَشَ: کی رائے کا کمزور ہونا، بہت زیادہ جھوٹ بولنا، دوسرے کی بات یا چیز اپنی طرف منسوب کرنا صفت: فَشْفَاش۔۔۔ ببولہ: پیشاب کرنا۔ الفَشْفَاش من النوق: وہ اونٹنی جس کا دودھ نکالتے وقت دودھ کی دھاریں ادھر اُدھر پڑیں۔ الفَشْفَاشَة: وہ چیز جس میں سختی نہ ہو، کہا جاتا ہے: تخرجُ الزُّبْدَةُ فَشْفَاشَةً: مکھن نرم نکلتا ہے۔

○ فَشَّ ۔فَشًّا ہ: سوجن وغیرہ کو بٹھا دینا۔۔۔ سوجن کا بیٹھ جانا، زائل ہو جانا۔ فَشَّ خُلْقَهُ (او غلّهُ) فی: پر غصہ کا اظہار کرنا۔ اِنْفَشَّ: سوجن وغیرہ کا زائل ہونا، بیٹھ جانا۔ فِشَّة جمع فِشَش: پھیپھڑا۔ فشفاش: پھیپھڑا۔

فشج: فَشَجَ ۔فَشْجًا و فَشَّجَ و تَفَشَّجَ و انْفَشَجَ الرجُلُ او البعیرُ: مرد یا اونٹ کا پیشاب کرنے کے لئے ٹانگیں پھیلانا۔

فشخ: فَشَخَ ۔فَشْخًاهُ: پر ظلم کرنا، بچوں کا کھیل میں کو طمانچہ مارنا۔۔۔ فی اللعب: کھیل میں جھوٹ بولنا اور ظلم کرنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: فَشَخَ علیه: پر سے پھلانگنا۔ فَشَخَ: ڈگ بھرنا (سریانی لفظ)۔ فَشَّخَ الرجُلُ: اپنے جوڑوں کو ڈھیلا کرنا۔

○ فَشَخَ ۔فَشْخًا: ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہونا یا بیٹھنا، ڈگ بھرنا، لمبے لمبے قدم اٹھانا۔ فَشْخَة جمع فَشَخَات قدم، جست، لمبا قدم۔

فشط: اِنْفَشَطَ العودُ: تر لکڑی کا ٹوٹ جانا۔ التَفْشِیط عند العامة: باطل پر فخر۔ کہتے ہیں: فَشَّطَ فلانٌ: فلاں شخص نے ان باتوں پر فخر کیا جو اس کے پاس نہیں۔

فشع: فَشَعَ ۔فَشْعًا ت الذُرَةُ: چینا کے اطراف کا خشک ہونا۔ الفُشَاع و الفُشَّاع (ن): ایک قسم کی بیل جس کی جڑوں سے بعض ادویہ بنائی جاتی ہیں۔

فشغ: افشَغَ ۔فَشْغًاهُ: کو بلند ہو کر ڈھانپ لینا۔۔۔ الشیءُ: وسیع ہونا، پھیلنا۔۔۔ ہُ بالسوط: پر کوڑا لے کر چڑھ جانا صفت: فَاشِغٌ م فَاشِغَة۔ فَشَّغَ بمعنی فَشَغَ۔۔۔ ہُ النومُ: پر نیند کا غلبہ کرنا۔ أفْشَغَهُ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔ تَفَشَّغَ ہُ: پر غالب ہونا، سوار ہونا۔۔۔ البیوتَ: گھروں کے درمیان گھس کر غائب ہو جانا۔۔۔ الرجُلُ: کسل مند ہونا، کھردرے کپڑے پہننا۔۔۔ ت الغُرَّةُ: پیشانی کے سفید بالوں کا پھیل کر آنکھ کو گھیر لینا۔۔۔ الشیبُ فیه و تَفَشَّغَهُ: بڑھاپے کا نمودار ہونا اور تمام قویٰ و اعضائے بدن میں سرایت کر جانا۔ اِنْفَشَغَ: بہت ہونا، ظاہر ہونا۔۔۔ الشیءُ: کشادہ ہونا۔ الفَشْغَة: اسم مرة۔ نرکل کا گودا، مغز۔ نَاصِیَةٌ فَاشِغَةٌ و فَشْغَاء: پیشانی جس کے منتشر بال آنکھوں کو ڈھانپ لیں۔ الأفْشَغُ م فَشْغَاء جمع فُشْغ: مینڈھا جس کے سینگ دائیں بائیں نکلے ہوئے ہوں۔ رجُلٌ أفْشَغُ الاسنان: جس کے دانت آگے پیچھے نکلے ہوئے ہوں، برابر نہ ہوں۔ المِفْشَاغ: کاہلی، سستی۔ الفُشَاغ و الفُشَّاغ (ن): آکاس بیل۔

۲۔ المُفْشِغ: اپنے ساتھی سے برا سلوک روا رکھنے والا۔ المُفْشِغ: بے فیض احسان جتانے والا۔

فشق: فَشَقَ ۔فَشْقًا الشیءَ: کو توڑ دینا۔ فَشِقَ ۔فَشَقًا: بہت لالچی ہونا، ایک کو چھوڑ کر دوسری چیز پکڑنا اور یوں انجام کار دونوں کا ہاتھ سے نکل جانا۔۔۔ الظبیُ: ہرن کا دور دور سینگوں والا ہونا۔ صفت: أفْشَق م فَشْقَاء۔۔۔ و فاشَقَ ہُ: کو بے خبری میں آلینا۔ تَفَشَّقَ بثوب: کپڑے کو پہننا۔ الفَشَق (مص): دوڑنا، بھاگ جانا، سرگرمی۔

فشك: الفِشْك، واحد فِشْكَة: گھوڑوں کی لید (عام زبان میں)۔ الفَشَك واحد فَشَكَة: کارتوس (ترکی لفظ)۔

○ فَشَكٌ خُلَّبِی: خالی کارتوس۔ فَشَكٌ دُخَانِی: دھوئیں والے کارتوس (smoke cartridges)۔

فشل: افشَلَ ۔فَشْلاً لحیتَهُ: ڈاڑھی کو پھٹکارنا۔

۲۔ فَشِلَ ۔فَشَلاً: لڑائی اور سختی کے وقت کمزوری دکھانا، ناتوانی اور بزدلی کا مظاہرہ کرنا صفت: فَشْلٌ و فَشِلٌ و فَشِیْلٌ جمع فُشُلٌ و أفْشَال: آج کل فشل فی عمله کا معنی اپنے کام میں ناکام ہونا لیا جاتا ہے۔ اِنْفَشَلَ: اچانک ہونے والی کسی بات پر ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا، دہشت زدہ ہو جانا۔۔۔ علیه: کے لئے ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا، دہشت زدہ ہو جانا۔ اسم الفَشْلَة ہے (عام زبان میں)۔

۳۔ فَشَّلَ و تَفَشَّلَ و افْتَشَلَ ت المرأةُ: عورت کا اپنی ڈولی پر پردہ ڈال لینا۔ الفِشْل جمع فُشُول و المِفْشَل جمع مَفَاشِل: ہودج کا پردہ یا ہودج میں وہ چیز جو عورت اپنے نیچے رکھ لیتی ہے۔

۴۔ تَفَشَّلَ الرجُلُ منهم امرأةً: مرد کا ان میں سے کسی عورت سے شادی کر لینا۔ المِفْشَل: وہ شخص جو کسی غیر خاندان کی عورت سے شادی کرے تاکہ اولاد لاغر نہ ہو۔

۵۔ تَفَشَّلَ الماءُ: پانی بہنا۔ التفشیل جمع تَفَاشِیل: تھن میں باقی ماندہ دودھ۔

○ فَشِلَ ۔فَشَلاً: حوصلہ ہار جانا، بزدل یا بے ہمت ہونا یا ہو جانا، امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا، مایوس ہو جانا، بے امید ہو جانا، توقع باطل ہونا۔۔۔ فی: میں ناکام ہونا، کامیاب نہ ہونا۔۔۔ ناکام رہنا، غلط ہو جانا۔ فَشَّلَ و أفْشَلَ ہ: کی راہ میں حائل ہونا، مزاحم ہونا، کو ناکام بنا دینا، کو بے اثر کرنا۔ تَفَشَّلَ: ناکام ہونا، کامیاب نہ ہونا۔ فَشَل: ناامیدی، مایوسی، ناکامی، ناکامیاں مانیں فش۔ فَشْل و فَشِل: کمزور، بزدل، بے ہمت، ڈرپوک۔ فَاشِل: ناکام، بے اثر، بے نتیجہ، ناکامی سے دوچار ہونے والا، ناکارہ، فضول۔

○ فشن: الأفْشِین جمع أفَاشِین: اہل روم کی نماز میں ایک خاص ٹکڑا (یونانی لفظ)۔

فشو: افشَا ۔فَشْوًا و فُشُوًّا و فُشِیًّا خبرُهُ او فضلُهُ او سِرُّهُ: خبر، فضیلت یا بھید کا پھیل جانا اور شہرت پانا۔۔۔ ت الماشیةُ: مویشی کا چراگاہ میں جانا۔۔۔ ت امورُهم: امور کا متفرق ہونا۔ کہا جاتا ہے: فَشَتْ علیه ضیعتُهُ: اس کی جائیداد کے

معاملات بکھر گئے۔ اسکی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس سے شروع کرے۔ اَفْشَى اِفْشَاءً الشيءَ: کو پھیلانا، شہرت دینا۔۔۔ سرَّہ لِفُلان: بھید (کسی) پر ظاہر کر دینا۔۔۔ الرجُلُ: بہت مویشیوں والا ہونا۔ تَفَشّى تَفَشِّيًا المرضُ القومَ و بهم: میں بیماری پھیلنا۔۔۔ ت القرحةُ: زخم کا چوڑا ہونا۔ الفَاشِي م فاشِيَة جمع فَوَاشٍ (فا): الفَوَاشِي: پھیلے ہوئے مویشی۔ الفَشَاء: مویشیوں کی پیداوار اور زیادتی۔ الفَشَيَان: بے ہوشی۔

۲۔ الفَشْوَة: عورت کے خوشبوئیں رکھنے کا ڈبہ، عطردان۔ التَّفَشِّي عند اهل العربية: بولتے وقت حرف مُفَخَّم کرنا۔

○ فَشَا ۔فَشْوًا و فُشُوًّا و فُشِيًّا: پھیل جانا، ادھر ادھر پھیل جانا، منتشر ہونا، چکر لگانا، گردش کرنا، مشہور ہونا، انکشاف ہونا، ظاہر ہونا، افشا ہونا، منظر عام پر آنا، فاش ہونا۔ اَفْشَى ہ: کو پھیلانا، کی نشر و اشاعت کرنا۔۔۔ ہ/ب: کا انکشاف کرنا، افشا کرنا، کو ظاہر کرنا، فاش کرنا۔ تَفَشَّى: پھیلنا، ادھر ادھر پھیلنا؛ بہت زوروں پر ہونا (بیماری کا)۔ تَفَشٍّ: پھیلنا، پھیلاؤ (بیماری کا) پھوٹ پڑنا۔

فص: فَصَّ ۔فَصًّا و افْتَصَّ كذا من كذا: کو سے جدا کرنا، اکھاڑنا۔ اَفَصَّ اليه شيئًا من حقه: کو اپنے حق میں سے کچھ نکال کر دینا۔ اِنْفَصَّ منه: سے جدا ہو جانا۔ اِسْتَفَصَّ منه شيئًا: سے کو نکالنا۔ الفَصّ: (فاء کی زبر، زیر اور پیش کے ساتھ)، جمع فُصُوص و فِصَاص و اَفُصّ: لہسن کا جوا؛ اصل و حقیقت امر؛ ہر دو ہڈیوں کے ملنے کی جگہ۔۔۔ عند العامة: ریح (پیٹ کی گیس)۔

۲۔ فَصَّ ۔فَصِيصًا الجرحُ: زخم سے خون، پیپ کا بہنا۔ العَرَقُ: پسینہ کا ٹپکنا۔ فَصُّ الماء: (ف پر زبر، پیش اور زیر کے ساتھ) جمع فُصُوص و فِصَاص و اَفُصّ: پانی کا بلبلہ۔

۳۔ فَصَّ ۔فَصِيصًا الجندبُ: ٹڈی کا آواز نکلنا۔۔۔ الولدُ: بچہ کا کمزور آواز میں رونا۔

۴۔ فَصَّصَ الخاتمَ: انگوٹھی پر نگینہ لگانا۔۔۔ بعينه: گھورنا۔ الفَصّ: (ف کی زبر، زیر اور پیش کے ساتھ) جمع فُصُوص و فِصَاص و اَفُصّ: انگوٹھی میں جڑا جانے والا نگینہ (ف پر زبر زیادہ مناسب ہے) آنکھ کی سیاہی۔ الفَصَّاص: انگوٹھیوں میں نگینے لگانے والا۔ الفصيص: صاف چکنی گٹھلی۔

۵۔ فَصْفَصَ فَصْفَصَةً الكلامَ: جلدی بولنا۔۔۔ الدابةَ: جانوروں کو فصفصہ گھاس کھلانا۔ تَفَصْفَصَ القومُ عن فلان: لوگوں کو فلاں سے جدا ہونا۔ الفِصْفِصَة جمع فَصَافِص (ن): جانوروں کو کھلائی جانے والی ایک گھاس جب تک تازہ ہو۔ عام لوگ اسے فِصَّة کہتے ہیں۔ الفُصَافِص: پختہ ارادے والا۔

○ فَصَّصَ ہ: کا اوپر کا خول، پوست، چھلکا اتارنا۔ فَصّ جمع فُصُوص: انگوٹھی میں لگائے جانے والا ایک قیمتی پتھر، لہسن کی پوتھی، مالٹے کا) ایک ٹکڑا، کان کی لو، جوڑ، ست، جوہر، روح۔ فَصُّ مِلْح: نمک کی ڈلی۔ بِنَصِّهِ و فَصِّهِ: انہی الفاظ میں، لفظی واقعی، سچ مچ۔

فصح: افْصَحَ ۔فَصْحًا الصبحُ فلانًا: کے لئے صبح ظاہر ہونا۔ فَصُحَ ۔فَصَاحَةً: فصیح ہونا، خوش بیان ہونا صفت: فَصِيح۔۔۔ الاعجميُّ: عجمی کا عربی زبان میں گفتگو کرنا اور اس کی بات سمجھ میں آنا۔ اَفْصَحَ: فصاحت سے بولنا، فصیح ہونا، اپنی مراد کو ظاہر کرنا۔۔۔ الصبحُ: صبح کی روشنی پھیلنا۔۔۔ الامرُ: واضح ہونا۔۔۔ عن كذا: کا خلاصہ کرنا۔۔۔ عن الشيء: کو ظاہر کرنا، بیان کرنا۔۔۔ الفرسُ: گھوڑے کا صاف طور پر ہنہنانا۔۔۔ البولُ: پیشاب صاف رنگ کا ہونا۔ تَفَصَّحَ: زبان آور ہونا۔۔۔ و تَفَاصَحَ: فصیح بننا، فصیحوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ يومٌ فِصْحٌ: صاف مطلع والا دن۔ الفَصَاحة (مص): بیان، کلام کا تعقید سے خالی ہونا، یہ متکلم، کلام اور کلمہ تینوں کی صفت آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ فَصِيحٌ كلامٌ فَصِيحٌ و كلمةٌ فصيحةٌ۔ الفصيح جمع فُصُح و فُصَحَاء و فِصَاح م فَصِيحَة جمع فِصَاح و فَصَائِح و فَصِيحَات: فصاحت والا۔ المُفْصِح: واضح۔ يومٌ مُفْصِحٌ: صاف مطلع کا دن۔

۲۔ فَصُحَ ۔فَصَاحَةً اللبنُ: دودھ سے جھاگ کا اتار لینا۔ صفت: فَصْحٌ و فَصِيح۔ فَصَّحَ اللبنُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔ اَفْصَحَ اللبنُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔۔۔ من كذا: سے نکل جانا، رہائی پانا۔۔۔ النصارى او اليهودُ: یہود و نصاریٰ کی عید کا دن آنا یا عید منانا۔ الفِصْح عند النصارى: ایسٹر عیسائیوں کی عید کا دن (حضرت عیسیٰ علیہ السلام (نجات دہندہ) کا موت سے اٹھ کھڑے ہونے کی یاد میں منایا جانے والا دن)۔ فِصْحُ اليهود: یہودیوں کا مصر سے نکلنے کی یاد میں منایا جانے والا دن۔ اس صورت میں عبرانی لفظ فسح کا معرب ہے جس کا معنی پار جانا، عبور کرنا یا نجات ہے۔

○ فَصُحَ ۔فَصَاحَةً: فصیح ہونا۔ فَصَّحَ ہ: (زبان کو) ادبی شکل میں لانا، کو صحیح عربی بنانا، کو خالص اور صاف بنانا۔ اَفْصَحَ: بے عیب ادبی عربی میں اظہار خیال کرنا، صاف، واضح اور سمجھ کی بات کرنا۔۔۔ عن: کا اظہار کرنا، کو صاف طور پر بیان کرنا، کا صاف صاف اعلان کرنا۔ کو واضح کرنا، کے بارے میں صاف گوئی سے بات کرنا۔ ل عن: کو کے متعلق اطلاع دینا۔ صاف، واضح اور صریح ہونا۔ تَفَصَّحَ: خوش بیان بننا، زبان پر عبور کا جھوٹا اظہار کرنا۔ فَصِيح جمع فُصَحَاء و فِصَاح و فُصُح: خالص، عمدہ عربی (زبان)، ادبی؛ صحیح ادبی زبان استعمال کرنے میں ماہر، صاف، واضح، قابل فہم (زبان، گفتگو)۔ خوش اسلوب۔ فصیح۔ فَصَاحَة: زبان کی پاکیزگی، زبان کا خالص ہونا، فصاحت، خوش بیانی، روانی۔ اَفْصَح م فُصْحَى: زیادہ خالص زبان کا، زیادہ فصیح، زیادہ صحیح ادبی زبان میں ماہر۔ العربية (او اللغة) الفُصْحَى: کلاسیکل عربی، ٹکسالی یا معیاری عربی۔ الفُصْحَى: کلاسیکل، ٹکسالی یا معیاری عربی۔ اِفْصَاح: بے عیب ادبی عربی اسلوب۔۔۔ عن: کے بارے میں صاف بیان، کھلم کھلا بات، کا کھلا اعلان۔ مُفْصِح: صاف، واضح، قابل فہم، بے ابر آلود، دھوپ سے روشن، رخشندہ، درخشاں، تابندہ، تابناک (دن)۔ اَفْصَحَ: عیسائیوں کا ایسٹر منانا، یہودیوں کا نجات کا دن منانا۔ فِصْح و فَصْح جمع فُصُوح: ایسٹر (عیسائیوں کا)، (یہودیوں کی) عید فصح۔

فصخ: فَصَخَ ۔فَصْخًا عن الامر: کسی معاملہ میں جان بوجھ کر غفلت کرنا۔۔۔ العودَ او المفصلَ: لکڑی یا جوڑ کو اکھیڑنا۔ فُصِخَ فلانٌ: خرید و فروخت میں نقصان اٹھانا۔ الفصيخ و الفَصِيخَةُ و الفلصِخَة: غلط رائے قائم کرنے والا۔ اس میں "ۃ" مبالغہ کیلئے ہے۔

فصد: افْصَدَ ۔فَصْدًا و فِصَادًا المريضَ: مریض کی رگ کھولنا۔۔۔ له عطاءً: کو جاگیر دینا۔۔۔ و افْتَصَدَ العِرقَ: رگ کھولنا۔ اَفْصَدَتِ الشجرةُ: درخت کی کونپلیں نکلنا۔ تَفَصَّدَ الدمُ: خون بہنا، جاری ہونا۔ کہا جاتا ہے: جاءَ يتفصَّدُ عَرَقًا: وہ اس حال میں آیا کہ اس کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اِنْفَصَدَت الشجرةُ: درخت کی کونپلیں نکلنا۔۔۔ الدمُ: خون بہنا، جاری ہونا۔ الفَصِيد: بمعنی مَفْصُود: یعنی وہ شخص جس کی فصد کھولی گئی ہو۔ المِفْصَد: نشتر، فصد کھولنے کا آلہ، عام لوگ اسے الريشة کہتے ہیں۔

۲۔ فَصَدَ الشيءَ: کو تھوڑے سے پانی میں بھگونا۔ الفُصْدَة

و الفَصِيدَة: خون ملی کھجوریں۔ الفَصِيد (ط): وہ خون جس کو آنتوں میں بھر کر پھونکا اور بھونا گیا ہو۔
◌ فَصَدَ ـفَصْدا و فِصَادًا: رگ کھولنا۔ ـ ہ: کا فصد کھولنا، خون لینا۔ تَفَصَّدَ عَرَقًا: چہرہ وغیرہ کا پسینہ بہنا۔ اِنْفَصَدَ: کا فصد کھولا جانا، کا خون لیا جانا، (ناک کا) خون بہنا۔ فَصْد: رگ کا کھولنا، خون لینا، خون کشی۔ فِصَاد: رگ کا کھولنا، خون لینا، خون کشی۔ فِصَادَة جمع فصائد: خون لینا، خون کشی۔ مِفْصَد جمع مَفَاصِد: نشتر۔

فصع: ۱۔ فَصَعَ ـفَصْعًا التمرةَ: دو انگلیوں سے دبا کر کھجور کا چھلکا علیحدہ کرنا۔ ـ الشیءَ: کو انگلیوں سے دبانا تاکہ نرم ہو جائے اور اندرونی حصہ کھل جائے۔ ـ عمامتَهُ عن راسه: سر سے عمامہ اتارنا۔ فَصَّعَ الرُّطَبَةَ: تر کھجور کو دو انگلیوں سے دبانا تاکہ چھلکا علیحدہ ہو جائے۔ ـ الشیءَ من کذا: کو سے نکالنا۔ اِنْفَصَعَ الشیءُ عن کذا: کا سے نکلنا، کا سے باہر نکل آنا۔ اِفْتَصَعَ حقَّهُ منه: سے اپنا پورا حصہ جبراً لے لینا۔ الفَصْعَان: ہمیشہ ننگے سر رہنے والا۔
۲۔ فَصَعَ ـفَصْعًا و فَصَّعَ له بکذا: کو کوئی چیز عطا کرنا۔
۳۔ الفَصْعَاء (ح): چوہیا۔

فصف: الفُصْفُوراك: فاسفورس۔
◌ فُصْفَات: فاسفیٹ (phospate)۔
◌ فصف: الفُصْفُور (ك): فاسفورس (phosphorus)
◌ فُصْفُوری: فاسفوری، فاسفورس کا۔ ضیاءٌ فصفوری: ضیاء پاشی، ضوافگنی (phosphore -scence)۔

فصل: ۱۔ فَصَلَ ـفَصْلًا الشیءَ: کو قطع کرنا، جدا کرنا، علیحدہ اور ممتاز کرنا۔ فصلُ الخُصومات: جھگڑوں کو فیصلہ کر کے قطع کر دینا۔ ـ بینهما: دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ہونا، رکاوٹ ہونا، حائل ہونا۔ ـ الولدَ عن الرَّضاع: بچہ کا دودھ چھڑانا۔ ـ فُصُولًا الرجُلُ عن البلد: شہر سے نکل جانا۔ ـ الکرم: انگور کی بیل کا دانا نکالنا۔ فَصَّلَ الکلامَ: کلام کی وضاحت اور تفصیل کرنا۔ یہ أجْمَلَ کی ضد ہے۔ ـ الشیءَ: (ایک باب) کو چند فصول پر منقسم کرنا، کے چند الگ ٹکڑے کرنا۔ ـ الثوبَ: کپڑے کو سینے کے لئے قطع کرنا۔ ـ القصَّابُ الشاةَ: قصائی کا بکری کاٹ کر علیحدہ علیحدہ ٹکڑے کرنا۔ ـ العِقدَ: ہار کے دو ہم رنگ موتیوں یا چھاتیوں کے درمیان میں ایک دوسرے رنگ کا موتی یا مہرہ ڈالنا۔ فَاصَلَ شریکَهُ: اپنے حصہ دار سے علیحدہ ہو جانا۔ عام لوگ کہتے ہیں: فَاصَلَهُ فی السعر: وہ اپنے حصہ دار سے نرخ کے معاملہ میں علیحدہ ہو گیا۔ اسم المُفَاصَلَة: اَفْصَلَ المولودُ: بچہ کے دودھ چھڑانے کا وقت آ جانا۔ المریضُ: مریض کا مر جانا (عام زبان میں)۔ تَفَصَّلَ: ہر ہر عضو کے ٹکڑے ہو جانا۔ تفاصَلَتِ الأشیاءُ: بعض کا بعض سے جدا ہونا۔ اِفْتَصَلَ النخلةَ عن موضِعِها: کھجور کے پودے کو اس کی جگہ سے اکھیڑ کر دوسری جگہ لگانا۔ ـ الولدَ عن الرَّضاع: بچہ کا دودھ چھڑانا۔ اِنْفَصَلَ: جدا ہونا (یہ اِتَّصَلَ کی ضد ہے)۔ ـ عنه: سے علیحدگی اختیار کرنا۔ اِسْتَفْصَلَ: تفصیل طلب کرنا۔ الفَصْل (مص): حق و باطل کے درمیان فیصلہ۔ ـ جمع فُصُول: دو چیزوں کے درمیان کی روک، دو زمینوں کے درمیان کی حد، فرع۔ (کہا جاتا ہے: للنسب اصول وفصول: یہاں فصول سے مراد فروع ہے)۔ سال کے چار موسموں اور حصوں میں سے ایک حصہ یعنی موسم بہار، گرمی، خریف، سردی۔ ـــــ من الجسد: دو ہڈیوں کے ملنے کی جگہ جس کو جوڑ کہتے ہیں۔ ـــــ من الکتاب: کتاب کا ایک مستقل ٹکڑا۔ قولٌ فَصْلٌ: قول حق جس میں باطل کا شائبہ نہ ہو۔ یومُ الفَصْلِ: قیامت کا دن۔ فصلُ الخطاب: حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا خطاب، خطیب کے قول اما بعد کو بھی فصل الخطاب کہا جاتا ہے۔ الفَصْلَة: فصل کا اسم مرۃ۔ کھجور کا پودا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لگایا گیا ہو۔ الفِصْلة او الکَاسِیَة (ز): پھول کے چاروں طرف سبز پتوں کے غلاف کا ایک ٹکڑا، جو کبھی جدا ہوتا ہے تو کبھی ساتھ۔ الفِصَال: بچہ کا دودھ چھڑانا۔ الفَصَّال: انعام حاصل کرنے کے لئے لوگوں کی تعریفیں کرنے والا۔ سیفٌ فَصَّال: شمشیر قاطع۔ الفاصِل فا: حکمٌ فاصِلٌ: نافذ ہونے والا حکم۔ الفاصِلة جمع فواصِل: فاصل کا مؤنث۔ ہار کے دو مہروں کے درمیان ایک دوسرے رنگ کا مہرہ۔ الفاصلة الصُغری: (علم عروض میں): تین متحرک حروف کے بعد چوتھا حرف ساکن ہونا جیسے: ضَرَبَتْ ـم۔ الفاصِلة الکُبری: چار متحرک حروف کے بعد پانچواں ساکن ہونا: جیسے: ضَرَبَکُمْ (سجع میں): شعر کا قافیہ۔ الفَصِیل جمع فِصَال و فُصْلان و فِصلان: شہر پناہ کے سامنے چھوٹی دیوار، اونٹنی یا گائے کا بچہ جو ماں سے علیحدہ کیا گیا ہو۔ الفَصِیلة جمع فَصَائِل: فصیل کا مونث، ران کے گوشت کا پارچہ یا حصہ بدن کا ٹکڑا، قبیلہ اور خاندان کے وہ قریبی لوگ جن کو کنبہ اور گھرانے کے لوگ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا بفصیلتهم: وہ سب آئے۔ الفَیْصَل جمع فَیَاصِل: حاکم، قاضی، وہ حکم یا فیصلہ جو حق و باطل میں امتیاز کر دے، جو چیز چند امور میں فیصلہ کر دے، تلوار قاطع۔ حکمٌ فَیْصَل: نافذ شدہ حکم۔ حکومةٌ فیصل: نافذ ہونے والی حکومت۔ ضربةٌ فیصلٌ: وہ مار جو دو ہمسروں میں فیصلہ کن ہو۔ الفَیْصَلی: حاکم، جج۔ المَفْصِل جمع مَفَاصِل: بدن کے اعضاء کا جوڑ۔ المَفَاصِل: ایک دوسرے سے ملے ہوئے پتھر، دو پہاڑوں کے درمیان کی ریگستانی یا پتھریلی زمین جس کا پانی نہایت ہلکا اور صاف ہوتا ہے۔ داءُ المَفَاصِل (طب): جوڑوں کے درد کی بیماری۔ المِفْصَل: زبان۔ المِفْصَال: جس کی عادت فیصلہ کی ہو۔ المُفَصَّلَة: (بڑھیوں کی اصلاح میں) قبضہ جو دروازوں وغیرہ میں لگایا جاتا ہے۔ الانفصالی: علیحدگی پسند۔ الإنفِصَالِیَة: علیحدگی پسندی، علیحدگی پسند کی کیفیت۔
۲۔ الفَاصُولِیَة و الفَصُولِیَة او اللّوبِیاء (ن): پھلی (bean)۔
◌ فَصَلَ ـفَصْلًا ہ/ ہ عن: کو سے جدا کرنا، علیحدہ کرنا، منقطع کرنا۔ ـــــ بین: دو چیزوں کو یا شخصوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کرنا۔ ـــــ ہ: کو کاٹنا، الگ کرنا، جدا کرنا، دو ٹکڑے کرنا، کاٹ ڈالنا، کا سلسلہ منقطع کرنا، میں مداخلت کرنا، کی راہ میں حائل ہونا، رکاوٹ کھڑی ہو جانا، بات کاٹنا، قطع کلام کرنا۔ ـــــ ہ عن/من: کو سے سبکدوش کرنا، کو سے برخاست کرنا، برطرف کرنا، کو سے نکال دینا، کو سے محروم کرنا۔ ـــــ ہ: جھگڑے وغیرہ کا فیصلہ کرنا۔ ـ فی: میں، کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ ـ ہ: کی قیمت متعین کرنا۔ ـــ ہ عن الرضاع: بچہ کا دودھ چھڑانا (مصدر فصال)۔ فَصَلَ ـفُصُولًا من/عن: سے دور چلے جانا (جگہ) چھوڑ دینا، ترک کر دینا، (سے) نکل جانا۔ فَصَّلَ ہ: کو خاص حصوں میں تقسیم کرنا، کی ٹولیاں بنانا، کو ترتیب دینا، کی درجہ بندی کرنا، کو قسم وار کرنا؛ کو منطقی ترتیب سے پیش کرنا، کی تفصیلات دینا، کو مفصل بیان کرنا، کے کوائف درج کرنا، کو واضح کرنا، کپڑے کو قطع کرنا (سلائی کے لئے)۔ فَاصَلَ ہ: سے جدا ہونا، علیحدہ ہونا۔ ـــ ہ علی: سے کیلئے سودے بازی کرنا، کے بارے میں بول تول کرنا۔ اِنفصل عن: سے جدا ہونا، الگ ہونا، علیحدہ ہونا۔ ـــــ عن/من: سے سبکدوش ہونا، برطرف ہونا، برخواست ہونا، سے نکالا جانا، سے محروم ہونا (سیاسی جماعت) کو چھوڑ دینا۔

فصل: الگ ہونا یا کرنا، جدا ہونا یا کرنا، علیحدگی، منقطع ہونا یا کرنا، کاٹنا، علیحدگی، تقسیم۔ ـــ من/عن: سے سبکدوشی، برطرفی، برخاستگی؛ فیصلہ، حکم (جج کا) جمع فُصُول: حصہ، جز، باب، ایکٹ (ڈرامہ کا)؛ سمفنی کی حرکت؛ (اخبار وغیرہ میں) مضمون؛ جماعت، درجہ (سکول میں)؛ موسم۔ فصل الخطاب: فیصلہ، بے غلط حکم۔ بینی و بینک فصل الخطاب: ہم اور تم میں ہمیشہ کیلئے بول چال بند ہوگئی۔ فصل التمثیل: (تھیٹر کا) موسم۔ القول الفصل: آخری لفظ، آخری فیصلہ۔ یوم الفصل: قیامت کا دن۔ فَصْلَة: نکتہ، کوما comma۔ فصلة مَنْقُوطَة: سیمی کولن: وقف ناقص semicolon۔(؛)۔ فِصْلَة: طبع ثانی، طبع جدید۔ فَصِيْلَة جمع فَصَائِل: جنس، قسم، نوع، خاندان، کنبہ، گروہ، فوج یا بیڑے کا وہ حصہ جو علیحدہ کسی مہم پر بھیجا جائے، دستہ (فوجی)؛ اڈا (سیاسی) پلاٹون (platoon)، سکواڈرن(squadron)۔ فصيلة دم: خون کی قسم(blood group)۔ فصيلة الاعدام: فیری دستہ(firing squad)۔ فصيلة الاستكشاف: دیکھ بھال کا دستہ (reconnaissance squad)، گشت(patrol)۔ فَيْصَل: فیصلہ کن اصول یا معیار، ثالث۔ فَيْصَلِيَّة: فیصل ٹوپی، عراقی میدان جنگ کی ٹوپی۔ تفصيلا اور بالتفصيل: تفصیل کے ساتھ، تفصیل سے، بڑی دقت نظر سے، بڑی باریک بینی سے۔ حسب تفصيل: کاناپ کے مطابق قطع کیا ہوا، (فلاں) درزی کا۔ ثياب التفصيل: درزی کے سلے ہوئے کپڑے۔ مَحْبُوك التفصيل: پورے فٹ کپڑے۔ تفصيلي: مفصل، خاص، تجزیاتی، تحلیلی۔ بالتفصيل۔ تفصيليًا: علیحدہ علیحدہ، فرداً فرداً، ایک ایک کرکے۔ المساحة التفصيلية: مساحت(land surrvey)۔ اِنْفِصَال: علیحدگی، انقطاع، خلل اندازی، قطع کلام، خلل، رکاوٹ۔ حرب الانفصال: امریکہ کی خانہ جنگی۔ انصار الانفصال: علیحدگی پسند separatist۔ اِنْفِصَالي: علیحدگی پسندانہ (جمع، اِنفِصَالِيُّون) علیحدگی پسند۔ اِنفصالية: علیحدگی پسندی(separatism)۔ فَاصِل: افتراقی، علیحدہ کرنے والا، تقسیم کرنے والا، جدا کرنے والا، فیصلہ کن، قطعی، جدائی، علیحدگی، فراق، تقسیم، خلل اندازی، قطع کلام۔ بلا فاصِل: بلا خلل و قطع کلامی، بلا انقطاع۔ فاصل الحرارة: حاجز حرارت(heat insulating)۔ مُبَارَاة فاصِلَة: آخری مقابلے، آخری میچ۔ خط فاصِل: حد بندی کی لکیر۔ فَاصِلَة جمع فواصِل: تقسیم، شگاف، درز، درمیانی فاصلہ، وقفہ، سکتہ (کوما (،)۔ ڈیش dash (ـ)، قرآنی آیت کا قافیہ اختتام۔ مُفَصَّل: تفصیلی، باریک بینی یا بڑی دقت نظر سے بیان کردہ، مفصل، قرائنی، درزی کا سلا ہوا، رواج کے مطابق سلا ہوا۔ مُفَصَّلًا: بالتفصیل، تفصیلی طور پر، بڑی دقت نظر سے، بڑی باریک بینی سے۔ مُفَصَّلَة جمع مُفَصَّلات: قبضہ دروازوں وغیرہ پر لگایا جانے والا (hinge)۔ منفصل: علیحدہ، الگ، جدا کیا ہوا۔

فصم: ۱۔ فَصَمَ ـ فَصْمًا الدملجَ ونحوه: بازوبند وغیرہ کو بغیر جدا کئے ہوئے توڑنا۔ تَفَصَّمَ وانفصَمَ: جدا کئے بغیر ٹوٹنا، پھٹنا، دراڑ پڑنا۔ الفصيم والأفصم: ٹوٹا ہوا، پھٹا ہوا۔

۲۔ فَصَمَ ـ فَصْمًا الشيءَ: کو کاٹنا، قطع کرنا۔ فُصِمَ البيتُ: مکان منہدم ہو جانا۔ أَفْصَمَ عنه المطرُ او الحُمَّى: سے بارش یا بخار کا منقطع ہونا۔ الفَصِيم و الأفصم: منقطع، کٹا ہوا۔

○ فَصَمَ ـ فَصْمًا ه: کو چٹخانا، میں شگاف ڈالنا، کو چیرنا، پھاڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جدا کرنا۔ فُصِمَ: مکان تباہ ہو جانا۔ اِنْفَصَمَ: شگاف دار ہونا، چٹخا ہوا ہونا، پھٹنا، چرنا۔ فَصْم جمع فُصُومات: طاق، طاقچہ، موکھا، جھروکا۔ انفصام: شگاف، فکر و عمل میں تضاد کی بیماری، فکر و عمل میں بے تعلقی۔

فصى: ۱۔ فَصَى ـ فَصْيًا الشيءَ من الشيءِ و عنه: کو سے جدا کرنا، دور کرنا۔ فَصَّى تَفْصِيَةً اللحمَ من او عن العظم: گوشت کو ہڈی سے چھڑانا اور علیحدہ کرنا۔ فَاصَ مُفَاصَاةً ه: سے جدا ہونا۔ أَفْصَى إفصاءً: خیر یا شر سے نکل جانا، چھٹکارا پانا۔ ـــ عنا المطرُ: بارش ہم سے منقطع ہوگئی۔ ـــ الصائدُ: شکاری کے جال میں شکار کا نہ پھنسنا۔ تَفَصَّى تَفَصِّيًا وانفصى اِنْفِصَاءً الرجُلُ من الرجل وعنه: مرد کا مرد سے جدا ہونا۔ ـــ من او عن الشدّة او غيرها: سختی وغیرہ سے رہائی پانا۔ کہا جاتا ہے: تَفَصَّى من الديون: وہ قرضوں سے باہر نکلا اور ان سے خلاصی پائی۔ الفَصِيَّة: خیر اور شر سے رہائی، چھٹکارا۔ ـــ مابين الحرّ و البرد: موسم کا اعتدال۔ کہا جاتا ہے: يوم فَصِيَةٍ و فُصِيَّةٍ و يوم مُفْصٍ و ليلة فُصِيَةٍ و فُصِيَةٍ و ليلة فُصِيَّة: معتدل دن، معتدل رات۔ الفَصِيَّة جمع فَصَايَا: خیر سے محرومی، شر سے رہائی۔

۲۔ تَفَصَّى تَفَصِّيًا الشيءَ: پر پوری طرح غور کرنا، کی تہہ تک پہنچنا۔

۳۔ الفصى واحد فصاة: خشک انگور کا دانہ۔

فض: ۱۔ فَضَّ ـ فَضًّا الشيءَ: کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ـــ القومَ: قوم کو متفرق کرنا۔ کہا جاتا ہے: فَضَّ اللہ جمعهُم و فضضتُ حلقةَ القومِ: اللہ تعالیٰ ان کی جمعیت کو متفرق کردے۔ (میں نے قوم کے حلقہ کو توڑ دیا)۔ ـــ ختمَ البابِ و الختمَ عن الكتاب: دروازہ اور کتاب کی مہر توڑنا اور کھولنا۔ ـــ الشيءَ على القوم: کو قوم پر تقسیم کرنا۔ ـــ مابينهما: کے درمیان قطع تعلق کرنا۔ ـــ اللؤلؤةَ: موتی بیندھنا۔ ـــ الدموعَ: آنسو بہانا۔ ـــ اللهُ فاهُ: اللہ کا کسی کے دانتوں کو گرا دینا۔ لا فُضَّ فُوكَ: یہ اس شخص کے لئے دعا ہے جو بہترین گفتگو کرے کہ تمہارے دانت نہ گرائے جائیں۔ فَضَّضَ الشيءَ: پر چاندی کا ملمع کرنا، پر چاندی کی جڑائی کرنا۔ أَفَضَّ العطاءَ: بہت دینا۔ تفضض: متفرق ہونا، منتشر ہونا۔ اِفْتَضَّ الماءَ: پانی آہستہ آہستہ یا تھوڑا تھوڑا گرانا۔ اِنْفَضَّ: ٹوٹ جانا، متفرق ہونا، منتشر ہونا۔ ـــ ت الدموعُ: آنسو بہنا۔ الفَضّ (مص): بکھرے ہوئے لوگ۔ کہا جاتا ہے: في المدينة فَضٌّ: شہر میں ہر طرف لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ تمرٌ فَضٌّ: بکھری ہوئی کھجوریں۔ الفَاضَة جمع فَوَاضّ: فاض کا مونث، مصیبت۔ الفَضَض: وہ پانی جو نہاتے وقت ادھر ادھر بکھر جائے، ہر متفرق و منتشر چیز۔ کہا جاتا ہے: خرجَ فَضَضٌ من الناس: متفرق فرقے نکلے۔ الفِضَّة (ك): چاندی۔ ـــ والفضة: وہ زمین جہاں پتھر ایک دوسرے کے اوپر بکھرے ہوئے ہوں۔ الفُضَاض و الفِضَاض و الفُضَاضَة: ریزے، ٹکڑے۔ کہا جاتا ہے: طَارُوا فُضَاضًا: وہ متفرق ہو کر اڑ گئے۔ الفَضِيض: ہر متفرق اور منتشر چیز، ٹوٹا ہوا، خوشگوار پانی یا بہتا ہوا پانی۔ المِفْضَاض و المِفَضّ و المِفضة: ہنگا، موگری۔

۲۔ فَضْفَضَ فَضْفَضَةً الثوبُ او العيشُ: لباس کا کشادہ ہونا، زندگی کا آرام دہ ہونا۔ ـــ ه: کو کشادہ کرنا۔ الفَضْفَاض: کشادہ کپڑا، خوش اور آرام دہ زندگی، فیاض شخص۔ ارضٌ فَضْفَاض: وہ زمین جہاں بارش کی کثرت سے پانی جمع ہو۔ جارِيَة فَضْفَاضَة: پرگوشت اور طویل قامت لڑکی۔ درع فَضْفَاضَة و فُضَافِضَة: کشادہ زرہ۔ سحابة فُضَافَضَة و فُضَافِضَة: بہت پانی والی بدلی۔

○ فضّ ـ فضًا ه: کو توڑ کر کھولنا، کو بیرم سے کھولنا، کو دور

لگا کر کھولنا، (مہر) توڑنا، کو بکھیرنا، منتشر کرنا، تباہ کرنا؛ (موتی) میں چھید ڈالنا، کو چھیدنا؛ جلسہ، اجلاس ختم کرنا؛ (پارلیمنٹ) توڑنا، (جھگڑا) چکانا، طے کرنا؛ (آنسو) بہانا۔ فضّ بکارتھا: لڑکی کا کنوار پن ختم کرنا۔ لا فضّ فوك: تم نے کتنی اچھی گفتگو کی ہے! فضّضہ: پر (چاندی) کا ملمع کرنا، پر (چاندی) چڑھانا۔ اِنفضّ: کھل جانا، ٹوٹ جانا، (مہر) کا ٹوٹ جانا، بکھر جانا، منتشر ہو جانا، دشمن کی صفوں میں بھگدڑ مچنا۔ (فوج وغیرہ کا) منتشر ہونا، خدمت سے سبکدوش ہونا۔ (اجلاس) ختم ہونا۔ اِفتضّھا: لڑکی کا کنوار پن ختم کرنا، کا ازالہ بکارت کرنا۔ فِضّة: چاندی۔ فِضّی: چاندی کا سا، نقرئی، سیمیں، چاندی کا بنا ہوا۔ فِضّیات: چاندی کے برتن۔ الجمهورية الفِضّية: ارجنٹائن (Argentina)۔ الستار الفضّی: فلمی پردہ، پردۂ سیمیں۔ مِفضّ: کھولنے کا اوزار (opener)۔ اِفتضاض: پردہ بکارت کا ازالہ۔

فضج: ۱۔ تفضّجَ وانفضجَ الرجُل عرَقًا و بالعرَق: کی بالوں کی جڑوں میں پسینہ آنا اور تر نہ ہونا۔ الفضیج: پسینہ۔ تفضّجَ الشیءُ: کشادہ ہونا، وسیع ہونا۔ — جسدُه بالشحم: کے جسم کا موٹاپے سے پھٹ جانا۔ اِنفضجت القرحَة: زخم کا کھل جانا۔ — الأفقُ: افق کا ظاہر ہونا۔ — البدنُ: بدن کا بہت موٹا ہو جانا۔ — البطنُ: پیٹ کے نرم حصوں کا ڈھیلا پڑ جانا۔ — الامرُ: ڈھیلا اور کمزور ہونا۔

فضح: ۱۔ فضَحَ ـ فَضْحًا ہٗ: کی برائیاں ظاہر کرنا، کو رسوا کرنا۔ — المُعمّیٰ: معمہ حل کرنا۔ — القمرُ النجوم: چاند کا اپنی روشنی سے ستاروں پر غالب آنا۔ — الصبحُ: صبح کا طلوع ہونا۔ — الصبحُ فلانًا: صبح کا نمودار ہونا اور اس کی روشنی کا غالب آنا۔ فضّحَ و أفضحَ الصبحُ: صبح کا طلوع ہونا۔ فاضحَ ہٗ و تفاضحَ: ایک دوسرے کو رسوا کرنا، ایک دوسرے کی برائیوں کو ظاہر کرنا۔ اِفتضحَ الامرُ: مشہور ہو جانا۔ — الرجُل: رسوا ہو جانا، کی برائیوں کا ظاہر ہو جانا۔ الفاضِح (فا): صبح۔ الفضاحَة و الفضوحُ و الفُضوحة و الفِضاح: رسوائی، برائیوں کا ظاہر ہو جانا۔ الفضّاح: صیغہ مبالغہ۔ الفضوح: رسوا کرنے والا، برائیوں کو ظاہر کرنے والا، رسوا شدہ۔ الفَضیح: مال یا مویشیوں کا برا کارپرداز۔ الفضیحَة جمع فضائِح: فضیح کا مونث، برائی، رسوائی۔ المَفضَحَة جمع مَفاضِح: رسوائی کا باعث اور سبب۔

۲۔ فضِحَ ـ فَضَحًا: تھوڑا سفید ہونا صفت: افضح م فَضحاء جمع فُضح۔

۳۔ أفضحَ النخلُ: کھجور کے درخت کا سرخ یا زرد پھل والا ہونا۔

○ فضحَ ـ فضحاً ہٗ: کی برائیوں یا جرائم کو بے نقاب کرنا، کو بے نقاب کرنا، کی اصلیت بتانا، کی حقیقت سے آگاہ کرنا، کو شرم دلانا، کو ذلیل کرنا، کا موجب رسوائی ہونا۔ — ہٗ: (چاند کا ستاروں کو) ماند کرنا، سے زیادہ چمکنا۔ — ھا: (عورت) کی عصمت دری کرنا۔ — ہٗ: کو ظاہر کرنا، فاش کرنا، افشا کرنا۔ اِنفضحَ: بے نقاب ہونا، مشتبہ بننا، ذلیل ہونا، رسوا ہونا۔ اِفتضحَ: مشہور ہو جانا، معلوم ہو جانا۔ اِفتضحَ امرُہٗ: وہ بے نقاب ہو گیا۔ فضح: پردہ دری، تذلیل، شرمساری، تھیس، سبکی، بے قدری، ذلت، خواری، رسوائی۔ فضِیح: شرمسار، بے نقاب، مشتبہ، رسوا، شرمناک رسوائی کا موجب، بدنام، رسوا کن، موجب رسوائی، فضیحت ناک۔ فضِیحَة: پردہ دری، تذلیل، شرمساری، ٹھیس، سبکی، بے قدری، ذلت، خواری، رسوائی، جمع فضائح: موجب رسوائی یا رسوا کن عمل یا چیز، بدنامی، رسوائی، ذلیل حرکت، فضیحت، بے عزتی، ذلت، شرمناک بات، شرمناک واقعہ، بدنامی یا رسوائی کی باتیں (scandal)۔ فضّاح: رازوں کو افشا کرنے والا، شرمناک باتوں کو بے نقاب کرنے والا۔ اِفتضاح: ذلت، رسوائی، کھلی بے عزتی، بدنامی۔ فاضِح: شرمناک رسوائی کا موجب، شرمناک، بدنام، رسوا کن، موجب رسوائی، فضیحت ناک، ذلت آمیز، موجب بدنامی، دل آزار۔ مفضوح: بے نقاب، بدنام، موجب بدنامی، شرمناک رسوائی کا موجب، شرمناک، مشتبہ، شرمندہ، ذلیل۔

○ فضفاض: چوڑا، ڈھیلا، لہراتا، لٹکتا (لباس)، بہت، وافر؛ فربہ اور گول مٹول (لڑکی)؛ پر تکلف بلند آہنگ اور نری لفاظی والا یا صرف عبارت آرائی پر مشتمل (خطاب، گفتگو وغیرہ)

فضخ: فضَخ ـ فضخا الشیءَ: (کھوکھلی) چیز کو توڑنا۔ — الرأسَ: سر کچلنا۔ — العینَ: آنکھ پھوڑنا۔ أفضخ العنقودُ: انگور کے گچھے کا نچوڑے جانے کا وقت آنا۔ اِفتضخ البسرَ: کچی کھجور کی نبیذ بنانا۔ اِنفضخَ: ٹوٹنا، کشادہ ہونا۔ — ت القرحَة: زخم کا کھل جانا۔ — ت الدلوُ: ڈول کا پانی چھلکنا۔ — زیدٌ: زید کا بہت رونا۔ فضخ الماءِ: پانی کی چھلک۔ الفضوخ: پینے والے کو مست بنانے والی شراب۔ الفضیخ: انگور کا شیرہ، کھجور کی شراب، بہت پانی ملا ہوا پتلا دودھ۔ المفضخه جمع مفاضخ: وہ پتھر جس سے کچی کھجوریں توڑی جاتی ہیں، چوڑا ڈول۔

فضل: ۱۔ فضَل ـ و فضِل ـ فضلا: باقی رہنا۔ أفضَل من الشیءِ: کا بقیہ چھوڑ دینا۔ تفضّل الرجُلُ: شب خوابی کا لباس پہننا، یا کام کاج کا لباس پہننا۔ اِستفضل من الشیءِ: کا بقیہ چھوڑ دینا یا باقی رکھنا۔ الفضل جمع فُضول: بقیہ۔ کہا جاتا ہے: فی یدہ فضل الزمام: اس کے ہاتھ میں لگام کا کنارہ ہے۔ (ع ح): زیادہ چیز سے کم چیز نکالنے کے بعد جو بچ جائے۔ الفضلة جمع فضلات و فِضال: فضل کا اسم مرہ، چیز کا باقی بچا ہوا حصہ، بقیہ شراب۔ — والفضل و الفِضال: وہ کپڑا جو نیند کے وقت یا کام کے وقت پہنا جائے یا جس کو گھر میں استعمال کیا جائے۔ کہا جاتا ہے: رجُل فضُلٌ: کام کاج کے کپڑے پہننے والا مرد۔ امرأة فضل: کام کاج کے کپڑے پہننے والی عورت۔ الفُضالة جمع فضالات: بقیہ۔ الفاضِل عند العامة: چیز کا باقی ماندہ حصہ۔ الفضول: مال غنیمت میں سے بچ جانے والا حصہ جو تقسیم نہ کیا جائے۔ المِفضل و المِفضلة جمع مَفاضِل: وہ لباس جو کام یا نیند کے وقت پہنا جاتا ہے یا گھر میں پہنا جاتا ہے۔

۲۔ فضَل ـ و فضِل ـ فَضلاً: زاید ہونا۔ أفضَلَ علیه: پر بڑھنا۔ (کہا جاتا ہے: رأیتُ صفّهم قد افضل علی صفّنا: میں نے ان کی صف کو دیکھا کہ ہماری صف سے بڑھ گئی ہے۔) سے زیادہ ہونا۔ الفضل جمع فضول: زیادتی، بڑھوتری۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یملك درهما فضلا عن دینار: وہ درہم کا مالک نہیں تو دینار کا کیسے ہو سکتا ہے۔ فضل کا نصب مصدر ہونے کی وجہ سے ہے۔ الفضول: حاجت سے زائد مال۔ فضول البدن: جو طبعی طور پر بدن کے مساموں یا مخارج سے نکلے جیسے پسینہ، تھوک وغیرہ۔ الفضولی: غیر متعلق چیزوں میں مشغول ہونے والا، عام لوگ اسے الحشری کہتے ہیں۔ فواضِل المال: مال کے منافع یا غلہ۔

۳۔ فضَل ـ فَضلا ہٗ: پر فضل میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے: فضل فلانٌ علی غیرہ: وہ دوسروں پر فضل میں غالب ہو گیا۔ فضِلَ و فضُل ـ فضلا: صاحب فضل ہونا، صاحب فضیلت ہونا۔ فضّلَ ہٗ علی غیرہ: پر دوسروں کے مقابلہ میں فضل و فضیلت والا ہونے کا حکم لگانا، کو دوسروں پر ترجیح دینا، کو سے

زیادہ اچھا بنانا۔ فَاضَلَ فِضَالاً و مُفَاضَلَةً ہ: پر فضل میں فخر کرنا۔ ـــ بین الشیئین: ایک چیز کی دوسری پر فضیلت کا حکم لگانا۔ اَفْضَلَ علیہ: سے بھلائی کرنا، پر مہربانی کرنا۔ ـ علیہ فی الحسب: سے حسب میں بڑھ جانا۔ تَفَضَّلَ علیہ: پر مہربانی کرنا، پر فضل کا دعوی کرنا۔ المولدون: (جدید عرب مصنفین) کے نزدیک تَفَضَّلْ (امر کے صیغہ کے ساتھ) کا لفظ مخاطب کو ''تشریف لائیے''، تشریف رکھئے یا کھانا تناول کرنے کی دعوت دینے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں گویا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: جناب آپ کی کرم فرمائی ہوگی اگر آپ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ تَفَاضَلَ الرجلان: ایک دوسرے پر فضل کا دعوی کرنا۔ الفَضْل جمع فُضُول: احسان یا اس کی ابتداء بغیر کسی وجہ کے۔ الفَاضِل جمع فَاضِلون و فُضَلاء م فَاضِلَة جمع فَاضِلات و فَوَاضِل: صاحب فضل، صاحب فضیلت۔ الفَاضِلَة: فضل میں بلند مرتبہ، بہہ نعمت۔ الفَضَّال: بہت فضل والا۔ الفَضُول: بہت فضل کرنے والا۔ الفَضِيل جمع فُضَلاء: صاحب فضل، صاحب فضیلت۔ الفضيلة جمع فَضَائِل: فضل میں بلند مقام و درجہ و مرتبہ، خوبی، وصف، فضیلت، شرف۔ الاَفْضَل جمع افضلون و اَفَاضِل م فُضْلَى جمع فُضْلَيَات و فُضَل: فضل میں بڑھا ہوا۔ المِفْضَل: بہت فضل والا۔ المِفضال م مِفْضَالة: بہت فضل والا۔ کہا جاتا ہے: هو مِفْضَالٌ علی قومه: وہ اپنی قوم سے بھلائی اور احسان کرنے والا ہے۔ المُفَضَّل: بہت فضل والا، وہ شخص جس کے متعلق حکم لگایا گیا ہو کہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ صاحب فضل ہے۔

⊙ فَضَلَ ـُ و فَضِلَ ـَ فَضْلاً: زائد ہونا، چھوڑا جانا، بچنا۔ فَضَلَ ـُ فَضْلاً ہ/ ہ/علی: سے بازی لیجانا، سبقت لیجانا، سے بہت عمدہ ہونا، پر شرف رکھنا۔ ـــ: بہت عمدہ ہونا، اعلی ہونا، بڑھیا ہونا، برتر ہونا، اول درجے کا ہونا، اعلی درجے کا ہونا، بہت خوشنما ہونا، اچھا ہونا، بہتر ہونا، زیادہ کافی ہونا۔ فَضَّلَ ہ/ہ علی: کو پر ترجیح دینا، کو سے زیادہ پسند کرنا، کو ترجیح دینا، کو پر یا کے سامنے رکھنا۔ فَاضَلَ ہ: سے برتری یا پیش روی میں مقابلہ کرنا۔ فَاضَلَ بین شیئین: دو چیزوں کا آپس میں مقابلہ کرنا تا کہ دیکھا جائے کہ ان میں سے کونسی چیز ترجیح کی مستحق ہے۔ اَفْضَلَ علی: کو نفع مرحمت کرنا، پر احسان کرنا، مہربانی کرنا۔ ـ علی ب: کو کچھ پیش کرنا، کو کوئی اعزاز عطا کرنا، کو کچھ دینا، عطا کرنا، کو کچھ انعام کے طور پر دینا۔ تَفَضَّلَ بمعنی اَفْضَلَ نیز تفضّل ب: کی یا کرنے کی مہربانی کرنا، کرنے کے قابل یا لائق سمجھنا یا مناسب سمجھنا، نوازش، یا عزت افزائی کے طور پر کرنا۔ تَفَضَّلْ: مہربانی کر کے، مہربانی ہوگی، ازراہ نوازش، ازراہ کرم۔ تَفَضَّلَ: گھریلو لباس پہننا، گھر کے اطراف میں جانے کا لباس پہننا۔ فضلاً عن: کے پاس یا پہلو میں، اسکا تو ذکر ہی کیا۔ not to speak of, to say nothing of] let alone۔ فَضْلاً عن ذلك: اور، مزید برآں، علاوہ ازیں۔ بِفَضْلِ ـــ: کی وجہ سے، کی بدولت، thnaks to, owing to, due to۔ من فضلك: ازراہ کرم، ازراہ نوازش۔ یرجع الفضل فی ذلك الیه یا الفضلُ فی ذلك عائدٌ الیه: اس کا سہرا اس کے سر ہے۔ لیسَ بالفضول أن: یہ بات زائد از ضرورت نہیں کہ۔ فضول الاحادیث: لاحاصل بات چیت، ناکارہ الفاظ۔ من فضولِ الکلام أن: یہ غیر ضروری بات ہوگی کہ...... یہ کہنا الفاظ کا ضیاع ہوگا کہ۔ فَضْلَة جمع فَضَلات: بقیہ، بچا کھچا، پس خوردہ، باقی، زائد، ضرورت سے زیادہ چیز، ردی، بیکار اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں، کترن، بیکار سمجھ کر پھینکی ہوئی چیز، آخور، فضلہ، بیکار گوشت (پھیپھڑے اوجھڑی وغیرہ)، ردی مال (جمع) پاخانہ پیشاب، بول و براز، فضلہ۔ فُضُول: تجسس، دخل در معقولات۔ فُضُولی: متجسس، دخل در معقولات کرنے والا، پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے والا۔ تو کون؟ میں خواہ مخواہ، بے اختیار کار پرداز، فُضُولِيَة: تجسس، خواہ مخواہ، دخل اندازی، اصرار، غیر دانش مندی۔ فَضِيل جمع فُضَلاء: نمایاں، ممتاز، بہت خوب، اول درجے کا، نہایت عمدہ، مستحق، فاضل، عالم فاضل۔ فُضَالة جمع فضالات: بمعنی فَضْلَة: نیز گندگی تلچھٹ۔ فَضِيلَة جمع فَضَائِل: اخلاقی برتری، تفوق، فضیلت، شرف، اعلی قسم، پارسائی، پاکدامنی، نیکی خیر خوبی، وصف، حق، استحقاق، فائدہ، نفع، فوقیت، غلبہ، عمدگی، خوشنمائی۔ صاحب الفضيلة: اسلامی علماء کا لقب جیسے مثلاً ریکٹر (پرنسپل یا وائس چانسلر) اور شیخ الازہر یونیورسٹی کے) نیز شیخ کے ساتھ بھی یہ لقب لگایا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: فضيلةُ الشيخ۔ فضيلاتُ السیدات: قابل احترام یا محترم خواتین۔ مِفْضَل: فائق، ممتاز، انتہائی نمایاں، بہت عمدہ، بہت فیاض، بہت فراخ دل۔ مِفْضَلَة جمع مَفَاضِل: گھر میں پہننے کا لباس، روزمرہ کا لباس۔ مِفْضَال بمعنی مِفْضَل۔ تفضيل: ترجیح، مدد اور ہمدردی کرنا، لحاظ، پاس، انتہائی عزت۔ اسم التفضيل: اسم تفضیل جیسے کریم سے اکرم۔ مُفَاضَلَة: مقابلہ، موازنہ۔ تَفَاضُل: برتری کے لئے مقابلہ (دو خدمات) میں کمیتی تفاوت، فرق۔ حساب التفاضل: احصاء تفریقی (differential calculus) تَفَاضُلی: احصائے تفریقی کے متعلق۔ تَفَضُّل: ہمدردی، مہربانی، کرم فرمائی، لطف و کرم، نوازش، کرم، خوش اخلاقی، تواضع، شائستگی۔ فَاضِل: باقیماندہ، بچا کھچا، زائد ضرورت سے زیادہ۔ جمع فَوَاضِل: باقی، باقی ماندہ، بچا کھچا، زائد، ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ چیز، بیشی۔ (جمع فَاضِلون و فُضَلاء) نمایاں، ممتاز، بہت عمدہ، درجہ اول کا، برتر حقوق، بہت عمدہ، مستحق، عالم فاضل، تہذیب و تمدن اور ثقافت نیز شائستگی والا۔ مُفَضَّل: قابل ترجیح، ترجیح دیا گیا، زیادہ پسندیدہ، ترقی دیا ہوا (شخص)۔

فضو: ۱۔ فَضَا ـُ فَضَاءً و فُضُوًّا المکانُ: جگہ کا کشادہ ہونا، خالی ہونا صفت: فَاضٍ۔ ـــ فُضُوًّا الشجرُ بالمکان: کسی جگہ میں درختوں کی بہتات ہونا۔ اَفْضَى إفضاءً المکانُ: جگہ کا کشادہ ہونا۔ الرجلُ: محتاج ہونا۔ ـــ المکانَ: جگہ کو کشادہ کرنا۔ ـــ الیه: کے پاس پہنچنا، تک پہنچنا۔ ـــ الیه بسرّه: کو اپنے بھید سے آگاہ کرنا۔ ـ بفلان: کو کھلی جگہ لیجانا۔ ـ به إلى كذا: کو تک پہنچانا۔ تَفَضَّى للامر: کے لئے فارغ ہونا۔ الفَاضِي (فا) وسیع، کشادہ۔ کہا جاتا ہے: مقام فاضٍ: کشادہ مقام، خالی، باہر کو نکلا ہوا۔ ـــ عند العامّة: کام سے فارغ۔ اسم الفضاوۃ ہے۔ فَضَاوَةُ البال: غم و فکر سے فراغت اور خالی ہونا۔ الاناء الفَاضِي: خالی برتن (عام زبان میں)۔ الفَضَاء جمع اَفْضِيَة: خلا، وسیع زمین، میدان۔ کہا جاتا ہے: مکانٌ فَضَاءٌ: کشادہ اور وسیع جگہ۔ الفضاء: زمین پر جاری پانی، بسا اوقات پاخانہ کیلئے کنایہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: ان امرهم فَضًا بینهم: ان کا کوئی امیر نہیں۔

۲۔ الفَضَا: خشک انگور کا دانہ۔ سهمٌ فَضًا: اکیلا تیر۔ طَعَامٌ فَضَاءٌ: ملا جلا کھانا۔

⊙ فَضَّى ہ: کو خالی کرنا۔ اَفْضَى إلى: کے پاس آنا، تک پہنچنا، آنا، کے پاس پہنچنا۔ ـــ ب إلى: کو کے پاس یا تک لیجانا، کا نتیجہ ہونا۔ ـ إلى ب: کو کوئی اطلاع دینا، کو سے مطلع کرنا، کو کچھ بتانا۔ تَفَضَّى ل: کے

لئے فرصت ہونا، کے لئے فارغ الوقت ہونا۔ فضاء: وسیع اور لامحدود کھلی جگہ۔ فضائے بسیط، خالی جگہ، کائناتی فضاء، آسمان، خلا، وسیع علاقہ، وسعت۔ سفینۃ الفضاء: خلائی جہاز۔ رمی بہ فی الفضاء: کو ہوا میں پھینک دینا۔ جمع أفضیۃ: کھلا علاقہ، زمین کا کھلا قطعہ، کھلی سرزمین، کھلا دیہاتی علاقہ۔ فِضائِی: سفینۃ فضائیۃ: خلائی جہاز۔ فاضٍ: خالی، غیر مقبوضہ، غیر مشغول، فارغ، فراغت میں۔

فطأ: فَطَأَ ـ فَطْأً ہُ: کو توڑنا۔ ــ بہ الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔ ــ بہ عن رأیہ: کو رائے سے ہٹا دینا۔ فاطأ مُفاطاۃً بہ الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔

٢۔ فَطَأَ ـ فَطْأً القومَ: قوم کے پاس ایسی چیز لانا جو اسے پسند نہ ہو۔

٣۔ فَطِئَ ـ فَطَأً: دھنسی ہوئی پیٹھ اور ابھرے ہوئے سینے والا ہونا۔ صفت: أفْطَأ م فَطْآء جمع فُطْءٌ۔ الفُطْأۃ: پیٹھ کا دھنسا اور سینہ کا ابھرا ہوا ہونا۔

٤۔ أفْطَأَ إفْطاءً: فراخ حال ہونا۔ ــ فلاناً: کو کھلانا۔

٥۔ أفْطَأَ إفْطاءً: بدخلق ہونا۔

٦۔ تَفاطَأَ: سینہ ابھارنا اور پیٹھ دھنسانا۔ ــ عنہ: سے پیچھے ہٹنا۔ ــ عن القوم: شکست کھانا اور حملہ آور ہونے کے بعد لوگوں سے لوٹ آنا۔

فطح: ١۔ فَطَحَ ـ فَطْحاً و فَطَّحَ الشیءَ: کو چوڑا کرنا۔ ــ العودَ: لکڑی کو چھیل کر چوڑا کرنا۔ ــ ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ فَطِحَ ـ فَطَحاً رأسُہُ أو أنفُہُ: سر یا ناک کا چوڑا ہونا۔ صفت: أفْطَح۔ رأسٌ مُفَطَّحٌ: چوڑا سر۔

٢۔ الفِطَحْل جمع فَطاحِل: بڑا سیلاب۔ جَمَلٌ فِطَحْلٌ: موٹا اونٹ۔ زمنُ الفِطَحْلِ: بہت پرانا زمانہ، لوگوں نے کہا کہ وہ زمانہ جس میں لوگ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ فَطاحِلُ العلماء: بڑے علماء۔

○ فَطَحَ ـ فَطْحاً و فَطَّحَ ہ: کو پھیلانا، چوڑا اور چپٹا کرنا، ہموار کرنا۔ أفْطَح و مُفَطَّح: چوڑے سر والا، چوڑی ناک والا۔ فَطاحِل: (فِطَحْل کی جمع): اہم، نمایاں، ممتاز سرکردہ لوگ یا شخصیات، مشہور شخصیات، ستارے۔ زمن الفِطَحْل: قدیم زمانہ قبل از آدم زمانہ۔

فطر: ١۔ فَطَرَ ـ فَطْراً الشیءَ: کو پھاڑنا۔ ــ نابُ البعیر: اونٹ کے دانت ظاہر ہونا، نکلنا۔ ــ اصبعَ فلانٍ: کی انگلی پر مارنا جس سے خون نکلنے لگنا۔ ــ الرجُلُ الشاۃَ: انگلیوں کے اطراف سے بکری کو دوہنا۔ فَطَّرَ الشیءَ: کو پھاڑنا۔ تَفَطَّرَ و انْفَطَرَ: پھٹنا۔ ــتِ الارضُ بالنبات: زمین کا پھٹ کر نباتات نکالنا۔ ــ القضیبُ: شاخ کے پتوں کا نکلنا شروع ہونا۔ الفاطِر (فا): جس کے دانت نکل آئے ہوں۔ الفَطْر (مص): بکری یا اونٹنی کا انگلیوں کے اطراف سے دوہنا۔ ــ جمع فُطور: پھٹن۔ الفِطْر: انگور جب کہ اس کے سرے ظاہر ہوں۔ الفُطْر: فِطْر۔ ــ واحد فُطْرَۃ: نباتات۔ (ن): سانپ کی چھتری کی ایک قسم۔ ــ الزراعی (ن): ایک پودا، (کھمبی، چھتری، کنار، ککرمتا، کلاہ باران)۔ سیفٌ فُطارٌ: کند تلوار۔ الفُطارِی: بے نفع آدمی۔ الأُفْطُور جمع أفاطِیر: ناک اور چہرے میں پھٹن۔ الفَطِیر: تازہ دودھ۔ المَفْطَرۃ جمع مَفاطِر (ز): کھیت جس میں کنار، کھمبی اگائی جاتی ہے۔

٢۔ فَطَرَ ـ فَطْراً الأمرَ: کو پیدا کرنا، شروع کرنا۔ اِفْتَطَرَ الامرَ: کو اختیار کرنا، ایجاد کرنا۔ الفِطْرَۃ جمع فِطَر: اختراع۔ وہ صفت جس سے ہر موجود شے اپنی ابتدائی پیدائش میں متصف ہو۔ انسان کی طبعی صفت، دین، سنت۔

٣۔ فَطَرَ ـ فَطْراً العجینَ: خمیر ہونے سے پہلے روٹی پکانا۔ الفَطِیر: ہر وہ چیز جو وقت سے پہلے جلدی میں کی جائے۔ کہا جاتا ہے: ھذا رأیٌ فَطِیرٌ: بدیہی رائے جو بغیر سوچے دل میں آئے۔ عیدُ الفَطِیر: یہود کی ایک عید۔ عجینٌ فَطِیرٌ: بے خمیر گندھا ہوا آٹا۔ خُبزٌ فَطِیرٌ: تازہ روٹی۔ الفَطِیرۃ جمع فَطائِر (ط): بے خمیر روٹی، میٹھی پیسٹری، کیک جیسی سفید روٹی (جو انڈوں اور مکھن سے تیار کی گئی ہو)۔

٤۔ فَطَرَ ـ فَطْراً و فِطْراً و فُطُوراً الصائمُ: روزہ دار کا افطار کرنا۔ فَطَّرَ الصائمَ: روزہ دار کو افطار کرانا، کو ناشتہ دینا۔ أفْطَرَ الصائمُ: روزہ دار کا کھانا اور پینا، کے افطار کا وقت قریب آنا۔ صفت: مُفْطِر جمع مَفاطِیر: کہا جاتا ہے: قوم مَفاطِیرُ: وہ لوگ جو کھائیں اور پئیں یا ان کے افطار کا وقت قریب آ جائے۔ ــ الصائمَ: روزہ دار کا روزہ افطار کرانا، کو ناشتہ دینا۔ الفاطِر: بے روزہ (عام زبان میں)۔ الفِطْر (مص): عید الفِطْر: رمضان کے روزوں کے بعد مسلمانوں کی عید۔ الفَطُور و الفَطُورِیّ: افطاری، ناشتہ۔ الفُطُور: نصف النہار یا دن کے شروع کے اوقات میں کھایا جانے والا کھانا (عام زبان میں)۔

○ فَطَرَ ـ فَطْر ہ: کو لمبائی کے رخ پھاڑنا، دو ٹکڑے کر دینا، توڑ کر جدا کر دینا۔ ــ فُطُوراً: روزہ کھولنا، افطار کرنا، افطاری کرنا، روزہ کے بعد کھانا پینا، ناشتہ کرنا۔ ــ فَطْراً ہ: اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو بنانا، خلق کرنا، وجود میں لانا۔ ــ ہ علی: اللہ تعالیٰ کا کسی کو کوئی (خوبی وغیرہ) عطا کرنا۔ فُطِرَ علی: کیلئے طبعی میلان رکھنا۔ فُطِرَ علی: کی فطرت میں ہے۔ أفْطَرَ: روزہ کھولنا، روزہ افطار کرنا، ناشتہ کرنا۔ تَفَطَّرَ: پھٹنا، دو ٹکڑے ہونا، ٹوٹنا۔ اِنْفَطَرَ بمعنی تَفَطَّرَ نیز اِنْفَطَرَ بالبُکاء: رونے لگنا۔ فَطْر جمع فُطُور: شگاف، درز، فتق، پھٹنا۔ فِطْر: افطار۔ صَدَقَۃُ الفِطْر: رمضان کے بعد دی جانے والی خیرات۔ فُطْر: اسم جنس (واحد فُطْرَۃ)، سمارو غ (fungi)، کھمبیاں۔ فُطْرِی: کھمبی کی طرح پیدا ہونے والا، کھمبی کا سا۔ فُطْرِیات: طفیلی کھمبیاں، کھمبیاں، کھمبیوں کی کاشت۔ المرضُ الفطری: داد جیسی بیماری mycosis۔ فِطْرَۃ: تخلیق، نیچر طبیعت، طبعی رجحان، فطری میلان، جسمانی ساخت، فطرت، مزاج طبیعت، افتاد طبع، پیدائشی، خلقی یا جبلی کردار، جبلت، وجدان، حیوانی عقل۔ فِطْرَۃً: طبیعت کے لحاظ سے۔ فِطْرِی: طبیعی، فطری، قدرتی، جبلی، پیدائشی، خلقی۔ الانسانُ الفطری: جنگلی انسان۔ الدیاناتُ الفِطْریۃ: فطری مذاہب، فطری ادیان۔ فُطُور: ناشتہ۔ فَطِیر: بے خمیر، خام، کچا، ناپختہ، تازہ، نیا، نیا نیا بنایا ہوا، بے خمیر روٹی۔ فَطایِری جمع فَطایِرِیَّۃ اور فَطاطِری جمع فَطاطِرِیَّۃ: پیسٹری یا انڈوں اور مکھن سے تیار کردہ سفید روٹیاں بنانے یا بیچنے والا۔ افطار: روزہ کھولنا، ناشتہ، رمضان میں سورج غروب ہونے کے بعد پہلا کھانا۔ الفاطِر: خالق (سبحانہ و تعالیٰ)۔

فطس: ١۔ فَطَسَ ـ فُطُوساً: مرجانا۔ صفت: فاطِس۔ ــ فَطْساً: دم گھٹنا (عام زبان میں)۔ فَطَّسَ ہُ: کو مار ڈالنا۔

٢۔ فَطَسَ ـ فَطْساً و فَطَّسَ ہُ بالکلمۃ: کوئی بات کے روبرو کہنا، کے منہ پر کہنا۔

٣۔ فَطَسَ ـ فَطْساً الحدیدَ: لوہے کو چوڑا کرنا۔ فَطِسَ ـ فَطَساً: چپٹی ناک والا ہونا۔ صفت: أفْطَس: چپٹی ناک کو بھی أفْطَس (م فَطْساء جمع فُطْس) کہتے ہیں۔ الفَطَسَۃ: ناک کا چپٹا پن۔ الفِطِّیس جمع فَطاطِیس: بڑا ہتھوڑا۔ الفِطِّیسَۃ: سور کی تھوتھنی، سونڈ، انسان کا ہونٹ، ہر درندہ اور کھر والے جانور کی تھوتھنی، ناک۔

۴۔ الفَطَس (واحد فطسَة): حَبُّ الآس۔ الفَطَسَة: مہرہ جس کا تعویذ بنایا جائے۔

⭘ فَطَسَ ہ: کو مار ڈالنا، کو گلا گھونٹ کر مارنا۔ اِنفَطَس: ناک کا چپٹا ہو جانا۔ فطیس: گلا گھونٹا ہوا، دم رکا ہوا، سانس رکا ہوا، مارڈالا ہوا۔ فَطِیسَة جمع فَطَائِس: لاش، مرا ہوا جانور، مردار، جانور کی بے سری لاش۔ اَفطَس: چپٹی ناک والا۔

فطم: فَطَمَ ـ فَطمًا الولدَ: بچے کا دودھ چھڑانا۔ ــ الحبلَ: رسی کو کاٹ دینا۔ ــ ہ عن العادۃ: کو عادت سے روکنا، منع کرنا، کی عادت چھڑانا۔ کہا جاتا ہے: لَاَفطِمَنّكَ عما انت علیہ: میں تمہاری لالچ کو منقطع کردوں گا۔ فَطَمَ الشجرُ: درخت پر پھل نہ رہنا۔ ــ الموسمُ: موسم کا ختم ہو جانا (عام زبان میں)۔ اَفطَمَ الرضیعُ: شیرخوار بچے کے دودھ چھڑانے کا وقت آجانا، بچے کا دودھ چھڑانے کے قریب ہونا۔ تَفَاطَمَ القومُ: ایسے مویشیں کے بچے والا ہونا جو دودھ چھڑانے کے بعد اپنی ماؤں سے لپٹے رہیں۔ اِنفَطَمَ: دودھ چھٹنا۔ ــ عنہ: سے رکنا، باز رہنا۔ نَاقَةٌ فَاطِمٌ و فاطِمَةٌ: وہ اونٹنی جس کا بچہ دودھ سے چھڑا دیا گیا ہو۔ الفِطَام: بچے کا دودھ چھڑانا، دودھ چھڑانے کا زمانہ۔ فِطَامُ القزِّ عند مُرَبِّی دُودِهِ: (ریشم کے کیڑے پالنے والوں کے نزدیک)، کیڑوں کو کھلانے کے بعد ریشم کے گولے بنانے کے لئے چھوڑ دینا۔ الفَطِیم جمع فُطُم: دودھ چھڑایا ہوا (بچہ)۔ الفَطِیمَة: وہ بکری جس کا بچہ دودھ سے چھڑا دیا گیا ہو۔

⭘ اِنفَطَمَ: دودھ چھڑایا جانا۔ ــ عن: سے باز رہنا، الگ رہنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا۔ فَاطِمی (صفت واسم) فاطمی جمع الفاطمیون: (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نسبت رکھنے والا)۔

فطن: فَطَنَ ـُ و فَطُنَ ـُ و فَطِنَ ـَ فَطْنًا و فِطْنًا و فُطْنًا و فَطَنًا و فُطُنًا و فِطْنَةً و فَطَانَةً و فِطَنَةً و فُطُونَةً و فَطَانِيَةً و فِطَانِيَةً للامر و به و الیہ: کا ادراک کرنا، سمجھنا، میں ماہر ہونا۔ فَطَّنَ ہُ بالامر و لہٗ و الیہ: کو، کا ادراک کرانا، کو کچھ سمجھانا۔ ــ التلمیذَ: شاگرد کو سمجھدار بنانا۔ فَاطَنَ مُفَاطَنَةً ہُ بالکلام: کو سمجھانے کے لئے بات کو لوٹانا۔ تَفَطَّنَ لکلامِهِ: کو سمجھ لینا۔ کہا جاتا ہے: تَفَطَّنْ لما اقول لك: میں جو تجھے کہتا ہوں اسے سمجھ لے۔ الفَاطِن و الفَطِن و الفَطین و الفَطُون و الفَطْن و الفَطُن جمع فُطْن و فُطُن: زیرک، سمجھدار۔ الفِطْنَة جمع فِطَن: مہارت، سمجھ۔ الفَطُونَة: زیرک، سمجھدار، ہوشیار۔

⭘ فَطِنَ ـَ و فَطَنَ ـُ و فَطُنَ ـُ فِطْنَةً: ہوشیار یا چالاک ہونا یا ہو جانا، تیز فہم، ذہین یا تیز طبع ہونا یا ہو جانا، دانشمند یا زیرک ہونا یا ہو جانا، دانا یا سمجھ دار ہونا یا ہو جانا، صاحب فراست، عاقل وفہیم ہونا یا ہو جانا۔ اِلــی/لِ/ب: کا دھیان کرنا، کو پوری طرح سمجھ لینا، ذہن نشین کرنا، سمجھنا، کا ادراک کرنا، سے آگاہ، واقف یا باخبر ہونا یا ہو جانا۔ ــ الی: کے متعلق رائے رکھنا۔ فَطَّنَ ہٗ: کو سمجھدار بنانا۔ ــ ہ الی/لِ/ب: کو کا ادراک کرانا، کچھ سمجھانا ذہن نشین کرانا۔ ــ ہ اِلی/لِ/ب: سے کی وضاحت کرنا، کو کی یاد دہانی کرانا۔ تَفَطَّنَ لِ: کو سمجھ لینا، کا ادراک کرنا۔ فَطِن و فَطِین (جمع فُطَنَاء): ہوشیار، چست وچالاک، ذہین زیرک، صاحب فراست، عاقل، فہیم، سمجھدار۔ فِطْنَة جمع فِطَن: چالاکی، ہوشیاری، عیاری، زیرکی، تیز فہمی، فراست، ژرف نگاہی، بصیرت، تیز نگاہی، ذکا، دقیقہ رسی، باخبری، واقفیت۔ فَطَانَة: ہوشیاری، چالاکی، پھرتی، تیز فہمی۔ تَفَطُّن: باخبری، واقفیت، ذہانت، سمجھ، فہم فراست۔

فطو: فَطَا ـ فَطوًا الدابۃَ: جانور کو تیز ہانکنا۔

فظّ: ۱۔ فَظَّ ـ فَظَاظَةً و فِظَاظًا و فَظَظًا: سخت کلام اور بدخلق ہونا۔ ــ ـفَظًّا و افتَظَّ: جنگلوں میں اوجھ کا پانی نچوڑنا اور پینا اور یہ اس طریقہ پر ہوتا ہے کہ اونٹوں کو سیراب کر لیتے ہیں اور پھر ان کے منہ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ جگالی نہ کرنے پائیں اور پھر جب پیاس لگتی ہے تو اونٹ کا پیٹ چاک کر کے اوجھ کو نچوڑتے اور پیتے ہیں۔ الفَظّ (مص) جمع اَفظَاظ: بہت بدخلق اور سخت کلام شخص۔ ــ جمع فِظَاظ و فُظُوظ: اوجھ کا پانی جو جنگلوں میں اونٹ کی اوجھ سے نچوڑ کر پیا جاتا ہے۔ (ح): بری شکل وصورت کا ایک آبی درندہ، اس کے نر کے بالائی جبڑے میں دو لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں، سمندری گھوڑا walrus۔ الفَظَاظَة: ٹکڑا۔

⭘ فَظّ جمع اَفظَاظ: اکھڑ، ناشائستہ، گستاخ، منہ پھٹ، بدتہذیب، بے ڈھنگا، بھونڈا، کڈھب، گنوار، اجڈ، غیر تعلیم یافتہ۔ فَظَاظَة: اکھڑپن، ناشائستگی، گستاخی، بدتہذیبی، بھونڈاپن، گنوارپن۔

فظع: ۱۔ فَظِعَ ـ فَظَعًا فلانٌ بالأمر و من الامر: کام کو بڑا سمجھنا اور اس کو انجام دینے کی استطاعت کے بارے میں اعتماد نہ کرنا۔ فَظُعَ ـ فَظَاعَةً الامرُ: کی قباحت بڑھ جانا، قباحت میں حد سے گذر جانا۔ صفت: فَظِع و فَظِیع۔ فَظَّعَ الامرَ: کو قبیح بنانا، میں مبالغہ کرنا۔ اَفظَعَ الامرُ: کی قباحت بڑھ جانا۔ ــ ہُ: کو سخت امر قبیح میں ڈالنا۔ ــ الامرَ: کو قبیح پانا۔ اُفظِعَ: کو مصیبت آپڑنا۔ تَفَظَّعَ و اِستَفظَعَ الامرَ: کو قبیح پانا۔

۲۔ فَظِعَ ـ فَظَعًا الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ الفَظِیعُ: خوشگوار پانی یا آب زلال۔

⭘ فَظُعَ ـ فَظَاعَةً: کریہ، نفرت انگیز، سخت نفرت انگیز، قابل نفرت، سخت بدنما، گھناؤنا، بدصورت، سخت برا، وحشیانہ، ظالمانہ، خبیث نابکار، بے درد، خوفناک یا دہشتناک ہونا یا ہو جانا۔ اِستَفظَعَ ہ: کو کریہ، نفرت انگیز، قابل نفرت، سخت برا، سخت بدنما، گھناؤنا، بدصورت، وحشیانہ، ظالمانہ، بے درد، خوفناک، دہشتناک پانا، کو قابل نفرت، سخت برا، مکروہ پانا۔ فَظِع و فَظِیع: کریہ، نفرت انگیز، سخت نفرت انگیز، قابل نفرت، سخت بدنما، گھناؤنا، بدصورت، سخت برا، وحشیانہ، ظالمانہ بے درد، خوفناک، دہشت ناک۔ فَظَاعَة: مکروہ پن، نفرت انگیزی، گھناؤنا پن، ہیبت ناکی، بدصورتی کراہت، تنفر، اکراہ، وحشت ناکی، انتہائی حماقت، بدتہذیبی، پاجی پن، ڈراؤنا پن، وحشت انگیزی، دہشت، خوف، بدحواسی، جمع فَظَائِع: فَظَائِع: مظالم، سفاکیاں۔ مُفظِع بمعنی فَظِع و فَظِیع۔

فظی: اَفظَی اِفظَاءً الرجُل: بدخلق ہونا۔

فعّ: فَعفَعَ فَعفَعَةً بالغنم: بکریوں کو فع فع کہہ کر ڈانٹنا صفت: فعفاع و فعفع۔ تَفَعفَعَ الرجُل فی امرہ: میں جلدی کرنا۔

فعل: ۱۔ فَعَلَ ـ فَعلًا: کرنا، بنانا۔ اس سے اسم فعل ہے۔ فَعَّلَ البیتَ الشِعرِیَّ: کی تقطیع کرنا اور وزن تقطیع کا ایسے اجزاء سے ہو جس کا مادہ ف ع ل ہے۔ اِنفَعَلَ: ہو جانا ہونا، متاثر ہونا۔ اِفتَعَلَ الشیءَ: کو ایجاد کرنا۔ ــ الخطَّ: میں جعلسازی کرنا۔ کہا جاتا ہے: اِفتَعَلَ علیہ زوراً و کذبا: اس نے اس پر جھوٹ و بہتان باندھا۔ الفِعل جمع فِعَال و اَفعَال و جج افاعیل: عمل، کام۔ الفَعلَة: فعل کا اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے: کانت منہ فَعلَةٌ حسنۃ او سیئۃ: اس سے ایک اچھا یا برا کام ہوگیا۔ الفِعلَة: عادت۔ فَعَالِ: اسم فعل امر کے معنی میں یعنی اُفعُلْ (کر)۔ الفَعَال: اچھا کام۔ کرم۔ کبھی شر میں بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح خیر میں۔ الفِعَال: فعل کی جمع۔ جس کو بہت سے آدمی کریں۔ الفَاعِل جمع فاعِلون و

فَعَلَه م فاعِلة جمع فاعِلات و فواعِل فا۔ جمع فَعَلَة: جسے روز زمین میں یا کسی اور جگہ کام کرنے پر لگایا جاتا ہے۔ التفاعل الکیماوی (ك): کیمیاوی ترکیب، عمل، کیمیاوی تاثیر و تاثر۔ الافاعیل و التفاعیل عند العروضیین: علم عروض کی اصلاح میں اشعار کے اوزان اور وہ چار ہیں۔ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ مَفَاعَلَتُنْ و فَاعِلاتُنْ اور بقیہ اوزان ان ہی چاروں سے ماخوذ ہیں۔ المُفتَعَل (مفع): ہر وہ چیز جو بغیر مثال سابق کے بنائی جائے۔ کہا جاتا ہے: جاء فلانٌ بالمُفتَعَل: فلاں نے بڑا کلام کیا۔ شِعْرٌ مُفتَعَل: عجیب و غریب شعر۔ ــــ فِعال الفأسِ: کلہاڑے کا دستہ۔

○ فَعَلَ ـفَعْلاً ہ: کچھ کرنا۔ ــ کام کرنا، عمل کرنا، کوئی سرگرمی انجام دینا۔ ـ فی ب: پر اثر و نفوذ رکھنا، تاثیر رکھنا، کو متاثر کرنا، کو کام میں لانا، استعمال کرنا، پر اثر انداز ہونا۔ ــ ب ہ: سے کچھ کرنا۔ ــ ہ فی: کے ساتھ کچھ کرنا۔ فعلَ فیہ فعلاً کریھًا: پر ناخوشگوار تاثر یا اثر رکھنا۔ فَعَّلَ ہ: شعر کی تقطیع کرنا۔ تفاعَلَ: باہم گر اثر انداز ہونا یا عمل کرنا، باہمی عمل کرنا۔ ــ مع: کے ساتھ ملنا، یکجا ہونا۔ ــ: دھڑے، اکیلے یا اتحاد میں شامل ہونا۔ اِنفَعَلَ: ہونا۔ لِ: سے متاثر ہونا، سے اثر پذیر ہونا، کے زیر اثر ہونا۔ ــ: مضطرب ہونا، برانگیختہ ہونا، مشتعل ہونا، برہم ہونا، پریشان ہونا، درہم برہم ہونا۔ اِفتَعَلَ کِذبًا علی: کے خلاف جھوٹ گھڑنا، تراشنا، ایجاد کرنا، اختراع کرنا۔ ــ ہ: (کچھ جیسے تحریر میں) جعلسازی کرنا، کو جعلی بنانا یا کرنا۔ ــــ ہ: کو ایجاد کرنا، اختراع کرنا۔ فِعْل: عمل، سرگرمی، کرنا، کام، وظیفہ، فرض منصبی جمع اَفعال و فِعَال: کام کار، فعل، عمل، اثر، تاثر، تصادم، ٹکر۔ جمع افعال: فعل (گرامر) جمع اَفاعِیل: عظیم کارہائے، کارنامے، کارہائے نمایاں، پھرتی یا چالاکی کے کام، جوڑ توڑ، ریشہ دوانیاں، فتنہ پردازیاں۔ فِعلاً یا بالفعل: فی الحقیقت، دراصل، فی الواقع، البتہ، ضرور، بلاشک، عملاً، واقعی، عملی طور پر۔ بِفِعلِ......: کے باعث، کی وجہ سے۔ فِعلی: واقعی، اصلی، حقیقی، واقعاتی، کاری، کارگر، موثر، تیر بہدف، مجرب، یقینی اثر کرنے والا، زود اثر، تاثیر بخش، عملی، بالفعل، فی الواقع، حقیقت میں، درحقیقت، فعل کا (گرامر)۔ فَعْلَة: کام، کار، فعل، عمل۔ فَعَّال: کاری، کارگر، موثر، تیر بہدف، مجرب زود اثر۔ فَعَّالِیَة: اثر آفرینی، تاثیر، اثر، مستعدی، تیزی، پھرتی، سرگرمی۔ اَفعَل: زیادہ کارگر، موثر، تیر بہدف یا زیادہ یقینی اثر کرنے والا۔ تفاعل: باہم گر عمل، باثر، باہمی عمل، تعامل۔ کیمیاوی مرکب کی تشکیل، کیمیائی عمل، کیمیاوی تاثیر و تاثر۔ اِنفِعال: تاثر، بے حرکت ہونا، حالت جمود، تحریک، ہیجان، جلن جمع اِنفِعالات: تحریک، حرکت، اضطراب، جوش، اشتعال، کھلبلی، ہلچل، ہنگامہ، بے قراری، بے کلی۔ اِنفِعالی: اشتعال پذیر، زود رنج، تنگ مزاج، چڑچڑا، جلد غصہ میں آجانے والا، پُر احساس، جذباتی، قلبی کیفیات سے متعلق۔ اِنفِعالیة: اشتعال پذیری، تنگ مزاجی، چڑچڑاپن، زود رنجی۔ فَاعِل: موثر، اثر آفرین، یقینی تاثیر رکھنے والا، کارگر، کارگزار۔ جمع فاعِلون: کرنے والا، ذاکار، مرتکب جمع فَعَلَة: کام کرنے والا، کارکن، مل مزدور، مزدور، محنت کش۔ فَاعِل (گرامر): اسم الفاعل: اسم فاعل (گرامر)۔ ذُوْرادِ یُوم فاعِل: تابکار (radioactive)۔ مَفعُول: مفعول (گرامر)۔ مفعول بہ: مفعول (گرامر۔ جمع مَفاعِیل: اثر، تاثر، تصادم، ٹکر، اثر آفرینی، قانونی طور پر جائز ہونا، معقول ہونا۔ اسم المفعول: اسم مفعول (گرامر)۔ سری مَفعُولُهُ: موثر ہونا یا ہوجانا۔ ــ علی: کے لئے قانونی ہونا یا ہوجانا۔ سَارِیُ المَفعُول: قانونی، ضابطہ کے مطابق، قانوناً مکمل۔ مَفعُول رَجْعِیّ: شعاع تابی، گرمتابی، شعاع کا انجذاب، تابکاری (radioactivity)۔ مُنفَعِل: برانگیختہ، مشتعل، جوش میں، پرجوش، گھبرایا ہوا، مضطرب، پریشان، چڑچڑا، زود رنج، تنگ مزاج، جلد غصے میں آجانے والا۔ مُفتَعَل: مصنوعی، بناوٹی، جعلی۔

فعم: فَعَمَ ـفَعْماً الإناءَ: برتن کو بھرنا۔ ــ و فَعِمَ ـ فَعْماً الرجُلَ: کو غضبناک کرنا۔ فَعُمَ ـفَعَامَةً و فُعُومَةً الإناءُ او الساعدُ: برتن یا بازو کا بھر جانا۔ صفت: فَعْمٌ اور فَعْمَل: (لام زائد لگانے سے) کہا جاتا ہے: ھو فعمُ الأوصَال: وہ تنومند ہے، بھرے ہوئے اعضاء والا ہے۔ فَعَّمَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ اَفعَمَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ ــ المِسكُ البیتَ: گھر کو مہکانا، خوش بو سے بھر دینا۔ ــ الرجُلَ: کو خوشی سے بھر دینا، خوش کرنا، غضبناک کرنا۔ اِفعَوعَمَ: بھر جانا، بہہ پڑنا، چھلک جانا۔ سیل مُفعَمٌ: لبالب سیلاب۔

○ اَفعَمَ ہ ب: کو سے بھرنا، لبالب بھرنا، مجمع کا راستہ روک لینا۔ مُفعَم ب: سے لبالب بھرا ہوا، سے پورا بھرا ہوا، سے پر، سے لبریز، سے حد سے زیادہ بھرا ہوا، سے چھلکتا ہوا، پھوٹ کر بہتا ہوا، سے مکمل طور پر بھرا ہوا۔

فعی: ۱۔ فَعَّی تفعِیَةً الجملَ: اونٹ پر سانپ کی شکل کا نشان بنانا۔ تَفَعَّی: بدخلقی میں سانپ کی طرح ہونا۔ الفاعِی: غصہ میں جھاگ نکالنے والا۔ الفاعِیَة: الفاعی کا مؤنث، چغل خور عورت۔ الافعی جمع اَفاعٍ (ح): خبیث قسم کا سانپ، اس کی قسمیں ہیں جو سب کی سب زہریلی ہوتی ہیں۔ الافاعِی (ع ا): رگیں جو بن ران کی رگ سے پھیلتی ہیں۔ الاُفعُوان (ح): نر سانپ۔ ارضٌ مُفعَاة: سانپوں والی سر زمین۔ المُفعّاة: سانپ کی شکل کا نشان۔

۲۔ الفاعِیة: حنا کے پھول۔ الافعاء: خوشبوئیں۔

فغ: فَغَّ ـفَغَّةً الطیبُ: خوشبو مہکنا، خوشبو بھڑکنا۔ کہا جاتا ہے: فَغَّتنی الرائحة فغا: مجھ پر بہترین خوشبو مہکی۔

فغر: ۱۔ فَغَرَ ـفَغراً فاهُ: منہ کھولنا۔ ــ فوهُ: کا منہ کھلنا۔ اِنفَغَرَ فوهُ: منہ کھلنا۔ ــ النورُ: کلی کھلنا۔ الفغر (مص): گلاب کا کھلا ہوا پھول۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ واسع فغرِ الفم: کشادہ دروازے والا۔ الفَغرَة: اسم مرة۔ کہا جاتا ہے: وُلِدَ بالفغرة: وہ ثریا کے طلوع ہونے کی ابتدا میں پیدا ہوا۔ یہ جاڑے کے زمانہ میں ہوتا ہے۔ الغفرة جمع فغر: وادی کا دہانہ۔ الفاغِرة (ح): پرندہ۔ المَفغَرَة: وسیع زمین، پہاڑ کا شگاف (غار سے چھوٹا)۔

۳۔ الفاغِرَة: ایک قسم کی خوشبو۔

○ فغفوری: عمدہ چینی کی مٹی (کے برتن)

فغم: ۱۔ فَغَمَ ـفَغمًا و فغومًا الطیبُ فلانًا: کی ناک کو خوشبو سے بسا دینا۔ اَفغَمَ المکانَ: جگہ کو خوشبو سے بسا دینا۔ ــــ الإناءَ: برتن کو بھرنا۔ ــــ الرجُلَ: کو خوشی سے بھر دینا۔ اِنفَغَمَ المکانُ: جگہ کا خوشبو سے بھر جانا۔ الفغم (مص): کھانے کا وہ حصہ جو دانتوں سے نکالا جاتا ہے۔ فَغمَةُ الطیب: خوشبو کی بھڑک۔ المَفغوم (مفع): زکام میں مبتلا۔ شیءٌ مَفغوم: خوشبو سے بسی ہوئی چیز۔

۲۔ فَغَمَ ـفُغومًا و تفغمَ الوردُ: گلاب کا پھول کھلنا۔ اِنفَغَمَ و اِفتغَمَ الزکامُ: زکام کا اچھا ہونا۔

۳۔ فَغَمَ ـفَغمًا و فُغومًا و فَاغَمَ مُفاغمَةً فلانًا: کا بوسہ لینا۔ تفاغَمَ: ایک دوسرے کو بوسہ دینا۔ الفُغم و الفغم: منہ، ٹھوڑی مع جبڑوں کے۔

۴۔ فَغِمَ ـفَغَمًا بالشیء: کا مشتاق ہونا، حریص ہونا۔ ـ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ الفَغِم: حریص۔ کہا جاتا ہے: کلبٌ فَغِمٌ علی الصید: شکار کا حریص

کتا۔ المُفغم (مفع) شائق، شوقین، متمنی، کی محبت میں گرفتار، مشتاق، خواہش مند۔ کہا جاتا ہے: ھو مفغم بہ: وہ اس کا مشتاق ہے۔

فغو ا۔ فغا ـ فغوًا الامرُ: پھیلنا۔ اَفغی الریحانُ: خوشبودار پودے کا شگوفہ دار ہونا۔ ـ الشجرُ: درخت میں کلی کھلنا۔ الفغو (مص) حنا کا پھول۔ الفغوۃ: خوشبو۔ کہا جاتا ہے: فغوۃ الطیب: خوشبو کی بھڑک۔ الفاغیۃ: حنا کی کلی، حنا کی ٹہنی جو الٹی لگائی جانے پر حنا سے زیادہ خوشبودار پھول دے، ہر خوشبودار کلی۔

۲۔ فغا ـ فغوًا الزرعُ: کھیتی کا خشک ہونا۔ أفغی فلانٌ: تمول کے بعد محتاج ہونا، حسن کے بعد بدصورت ہونا، طاعت کے بعد نافرمان ہونا۔ ـ ہٗ: کو غضبناک کرنا۔

فق ا۔ فقفق فقفقۃً: سخت محتاج ہو۔

۲۔ فقفق فقفقۃَ الکلبُ: کتے کا ڈر کی وجہ سے بھونکنا۔ ـ ت القِدرُ: ہانڈی ابلنے سے بلبلے نکلنا جن کی آواز سنی جائے (سریانی عام زبان)۔ ـ و تفقفق الرجلُ فی کلامہ: بات حلق سے نکالنا۔ فقفقۃ الماء: پانی ٹپکنے اور بہنے کی آواز۔ الفقفاق و الفقفاقۃ: بے وقوف بکواس کرنے والا۔

فقا فقا ـ فقوًا و فقا تفقئۃ الدُمّلَ: پھوڑے کو چیرنا (پیپ نکالنے کے لئے)۔ ـ العینَ: آنکھ پھوڑنا۔ ـ فلانٌ ساطریۃ: کا غضب دور کرنا۔ تفقا: چرنا، پھٹنا، شگاف ہونا۔ ـ فلانٌ شحمًا: چربی سے بھر جانا۔ انفقا: آنکھ کا نکل جانا، پھٹنا، چرنا۔ الفقءُ جمع فُقُوء: وہ باریک سی جھلی جو جنین کے سر یا ناک کے اردگرد ہوتی ہے اور ولادت کے وقت پھٹ جاتی ہے۔ ـ الفقیءُ جمع فقآن: پتھر کا گڑھا، سخت زمین کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے۔ الفقاۃ و الفافئاء: بمعنی الفقءِ۔

فقا ـ فقأً ہٗ: (آنکھ) نکال باہر کرنا۔ (پھوڑے، دنبل) کو نشتر سے کھولنا۔ فقاعینہ: (دشمن یا مخالف) پر کاری ضرب لگانا، کو تباہ و برباد کردینا۔ تفقأ: پھٹنا، بھک کرنا، بھک سے اڑنا، دھماکے سے پھٹنا۔

فقح ا۔ فقحَ ـ فقحًا و فقحَ الجروُ: کتے کے پلے کا آنکھیں کھولنا۔ ـ النباتُ: نباتات کا کلی دار ہونا، شگوفہ کھلنا۔ تفقّح: گفتگو میں کھل جانا، کھل جانا۔ الفقحۃ جمع فِقاح: دبر کا حلقہ۔ ـ من النبت: کلی۔ ـ و الفقاحۃ: ہتھیلی۔ الفُقّاح من کل نبت: کلی۔

تفقّح: شر پر آمادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ متفقّح للشر: فلاں شخص شر پر آمادہ ہے۔

۳۔ تفاقحَ القومُ: ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کرنا۔

فقد فقدَ ـ فقدًا و فِقدانًا و فُقدانًا و فقودًا ہٗ: سے گم ہونا، کو نہ پانا۔ افقدہٗ الشیءَ: سے کو گم کرانا۔ تفقدہٗ: گمشدہ کی تلاش کرنا۔ تفاقدَ القومُ: بعض کا بعض کو کھو دینا۔ افتقدہٗ: کو گم کرنا۔ کہا جاتا ہے: ما افتقدتہٗ منذ افتقدتُہٗ: جب سے میں نے اسے گم کیا ہے، تلاش نہیں کیا۔ کو گم کرنے کے بعد تلاش کرنا۔ ـ و استفقدَ المریضَ: بیمار کی عیادت کرنا (عام زبان میں)۔ الفاقِد (فا) وہ عورت جس کا شوہر یا بیٹا مر گیا ہو۔ الفقید: گم شدہ۔ کہا جاتا ہے: مات غیر فقید او غیر مفقود: وہ مر گیا کسی نے اس کے مرنے کی پروا نہیں کی۔

فقدَ ـ فقدًا و فِقدانًا و فُقدانًا ہٗ/ہ: کو نہ پانا، کو کھو دینا، کو نہ رکھنا، سے محروم ہونا۔ ـ ہٗ: کی موت سے غمگین ہونا۔ ـ ہٗ: کو کہیں رکھ کر بھول جانا، (موقع) گنوانا۔ فقد صوابہ: پاگل ہو جانا۔ افقدہٗ ہٗ: سے کچھ گنوا دینا، کو سے محروم کرنا۔ تفقدہٗ: کو تلاش کرنا، طلب کرنا۔ ـ ہٗ: کا جائزہ لینا، کا مطالعہ کرنا، معائنہ کرنا، پڑتال کرنا، کی تحقیقات کرنا، (کسی جگہ) جانا، (فوجی دستوں وغیرہ کا) معائنہ کرنا۔ اِفتقد: بمعنی تفقدَ نیز اِفتقد ہٗ/ہ: کو کھو دینا۔ اِستفقدَ ہٗ/ہ: کو نہ پانا، نہ پکڑ سکنا، کو یاد کرنا۔ فقید: گم شدہ، وفات یافتہ، مرحوم۔ فقیدُ العلم: جس کی وفات پر اہل علم و سائنس کو افسوس ہو۔ الفقید الراحل: مرحوم۔ فِقدان و فقدان: خسارہ، عزیز کی وفات۔ فقدانُ الصواب: پاگل پن، حماقت۔ فقدانُ الذاکرہ: یادداشت کی خرابی۔ فاقِد الشعور: بے ہوش، غشی میں، حواس باختہ، بے حس۔ فاقِدُ الضمیر: بے باک، بددیانت، بلا جھجک۔ فاقد و التھذیب: غیر تعلیم یافتہ لوگ، بے تہذیب لوگ۔ مُتفقِّد: کنٹرولر، انسپکٹر۔

فقر ا۔ فقرَ ـ فقرًا: کھودنا۔ ـ الشیءَ: کو کاٹنا، پر اثر کرنا۔ ـ عینہٗ: آنکھ پھوڑنا، نکال باہر کرنا (عام زبان میں)۔ فقّرَ: کھودنا۔ ـ الفسیلۃ: پودا لگانے کیلئے زمین کھودنا۔ ـ الشیءَ: کو کاٹنا، پر اثر کرنا۔ الفقر جمع افقر: چھٹن، کاٹ۔ الفقر: ترتیب سے بنے ہوئے کنوئیں جو ایک دوسرے تک پہنچتے ہوں اور ان کا آپس میں رابطہ ہو۔ الفقرۃ جمع فقر و فقرات: گڑھا۔ الفِقرۃ جمع فِقر: فقر کا اسم نوع۔ ذو الفقار: امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تلوار کا لقب۔ الفقیر جمع فُقُر: گڑھا جس میں کھجور کا پودا لگایا جائے۔ عوام اسے پیش کہتے ہیں، نالی کے منہ سے پانی نکلنے کی جگہ۔ رکیۃ فقیرۃ: کھدا ہوا کنواں۔ المفقر من السیوف: وہ تلوار جس کی پشت مشجر ہو۔

۲۔ فقرَ ـ فقرا تُہُ الداھیۃُ: پر بھاری یعنی کمر توڑ مصیبت آپڑنا۔ ـ الخرزَ: کو موتی پرونے کے لئے بیندھنا۔ فقِرَ ـ فقرًا: ریڑھ کی ہڈی میں بیماری یا اس کی شکستگی کی وجہ سے درد ہونا صفت: فقیر و فقِر و مفقور۔ فقرتہُ الداھیۃ: پر بھاری یعنی کمر توڑ مصیبت آپڑنا۔ ـ الخرزَ: کو موتی پرونے کے لئے بیندھنا۔ افقر ظھرُ المھر: بچھیرے کا سواری کے قابل ہونا۔ ـ ہٗ الصیدُ: کو شکار کا اپنی پہلو سے موقع دینا۔ ـ ہٗ ظھرَ مھرِہٖ: کو سواری کے لئے بچھیرا مستعار دینا۔ ـ ہٗ الارضَ: کو زمین کھیتی باڑی کے لئے مستعار دینا۔ الفاقِرۃ جمع فواقِر: کمر توڑ مصیبت۔ الفقر جمع فُقَر: جانب پہلو۔ الفقرۃ جمع فُقَر و فُقُرات: امر عظیم، قرب۔ کہا جاتا ہے: ھو منک فُقرۃ: یعنی وہ تم سے قریب ہے۔ الفقرۃ جمع فُقَر: ریڑھ کی ہڈی (کا جوڑ)۔ الفِقرۃ ج فِقَر و فِقرات و فِقَرات: ریڑھ کی ہڈی۔ ـ جمع فِقَر: قصیدہ کا عمدہ شعر، کلام یا جملہ کا لطیف نکتہ۔ الفقارۃ جمع فقار: ریڑھ کی ہڈی (کا جوڑ)۔ فقارُ الجوزاء: برج جوزاء کے ستارے۔ الفقاری: فقار ظہر کی طرف منسوب، ریڑھ کی ہڈیوں کا، ریڑھ کی ہڈیوں کے متعلق، ریڑھ کی ہڈیوں سے منسوب۔ الفیقر: مصیبت۔ المُفقِر: طاقت ور مرد، سواری کے قابل بچھیرا۔ المفقَّر: مضبوط ریڑھ کی ہڈیوں والا۔ رجل مُفقَر: فرمانبردار۔

۲۔ فقُرَ ـ فقارۃً: مفلس ہونا۔ افقرہٗ: کو مفلس بنانا۔ تفاقر: اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرنا، مفلس ہونے کا دعویٰ کرنا۔ افتقرَ: مفلس ہونا۔ ـ الیہ: کا محتاج ہونا۔ صفت: فقیر جمع فقراء م فقیرۃ جمع فقیرات و فقائر و فقراء۔ الفقر جمع فُقور و مفاقِر: افلاس، غم۔ الفُقر جمع فُقَر: مفلسی۔ الفقیر جمع فقراء م فقیرۃ ج فقیرات و فقائر و فقراء: محتاج۔ المفاقِر: اسباب افلاس، اس کے لئے کوئی واحد نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ فقر کی جمع ہے، خلاف قیاس جیسے: حُسن کی جمع محاسن اور یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ یہ مَفقَرۃ بمعنی فقر کی جمع ہو۔

۳۔ الفقرۃ جمع فقر و فقرات: گریبان۔ الفقرۃ جمع فِقر: پہاڑ وغیرہ کا نشان۔

○ فَقَرَ ۔ فَقْراً ہ: کو چھیدنا، برمانا، میں سوراخ کرنا، کو چھیدنا، کو بیندھنا۔ فَقُرَ ۔ فَقَارَۃً: مفلس ہونا یا ہو جانا، تنگ دست، حاجتمند یا محتاج ہونا یا ہو جانا۔ فَقَّرَ ہ: کو چھیدنا، میں چھید کرنا، سوراخ کرنا، کو بیندھنا، برمانا۔ اَفْقَرَ ہ/ہ: کو دبلا کرنا، ضعیف کرنا، کو کنگال کر دینا، کو غریب بنانا، مفلس کرنا۔ __ ہ إلی: کو کا محتاج کرنا، ضرورت مند کرنا۔ اِفْتَقَرَ: مفلس ہو جانا۔ __ إلی: کی حاجت ہونا، کی ضرورت ہونا، درکار ہونا، کا محتاج ہونا، کا کم یا نا کافی ہونا، میں ناقص ہونا، کو طلب کرنا۔ فَقْر: مفلسی، ضرورت احتیاج، کمی، طلب۔ فِقْرَۃ: سیکشن پیرا، پیراگراف، پیسج (passage)، عبارت، عبارت کا کوئی حصہ۔ فِقرۃ: کسی تحریر کا جزیا حصہ، دفعہ یا شرط (article)، مخصوص حصہ، خاص جملہ، خاص مضمون۔ السِلْسِلَۃُ الفِقْرِیَۃ یا العمود الفِقْرِی: سلسلۃ الظہر (the spinal column) حیوانات فِقرِیۃ: ریڑھ کی ہڈی والے جانور vertebrates فَقَار (اسم جنس واحد فَقَارَۃ): فقرہ، سلسلۃ الظہر۔ السِلْسِلَۃُ الفَقَارِیۃ: سلسلۃ الظہر۔ فَقِیر جمع فُقَراء: بھکاری درویش، صوفی بھکاری، غریب، غریب آدمی۔

فقس: اَفْقَسَ ۔ فَقْسًا البیضۃَ: انڈے کو ہاتھ سے توڑنا، پھاڑنا۔ __ الطائرُ بیضتَہ: پرندہ کا انڈے کو توڑ کر بچہ نکالنا۔ __ البارودۃَ: بندوق چلانا (عام زبان میں)۔ فَقَّسَ السمنَ فتفقّسَ: گھی کو آگ پر گرم کر کے جھاگ نکال کر اُسے صاف کرنا (عام زبان میں)۔ تَفَقَّسَ و انْفَقَسَ الشیءُ: الٹ جانا۔ تَفَاقَسَ الولدان: دو لڑکوں کا اپنے اپنے ہاتھ میں انڈہ لینا پھر ایک کا دوسرے کے انڈے کو ضرب لگانا۔ اس طرح ٹوٹنے والے انڈے کو صحیح انڈے والے کا لے لینا۔ اس سے اسم المُفَاقَسَۃ ہے۔ (عام زبان میں)۔ المِفْقَاسُ: جال کی لکڑی جو پرندے پر الٹ جاتی ہے تو پرندے کو پکڑ لیا جاتا ہے۔

۲ فَقَسَ ۔ فَقْسًا الرجلَ: کو بالوں سے پکڑ کر نیچے کھینچنا۔ __ الشیءَ: کو چھین لینا۔ __ ہ عن الامر: کو سے زبردستی روکنا۔ __ فُقُوسًا: کودنا۔ تَفَاقَسَ الرجلان: ایک دوسرے کے بالوں کو پکڑ کر نیچے کھینچنا۔

۳ فَقَسَ ۔ فَقْسًا الحیوانَ: کو قتل کرنا، مار ڈالنا۔ __ فُقُوسًا: اچانک مرجانا۔

۴ فَقَسَ ۔ فَقْسًا ہ: (کمانی) کو ڈھیلا کرنا، (پھیلی ہوئی چیز) کو کسنا، سمیٹنا، سکیڑنا (عام زبان میں)۔ الفُقَاس (طب): جوڑوں کی بیماری۔

۵ اَلْفَقُّوس (واحد فَقُّوسَۃ) (ن): خربوزہ کی ایک قسم۔

○ فَقُّوس (فَقُّوص): بڑے کھیرے یا ککڑی کی ایک قسم۔ مِفْقَس جمع مَفَاقِس: بچے نکالنے کا آلہ، انڈے سینے کی مشین، کمزور پیدائش کے بچے پالنے کی مشین (incubator)۔

فقش: فَقَشَ ۔ فَقْشًا البیضۃَ: انڈے کو ہاتھ سے توڑنا۔ شجرٌ فاقِشٌ: پھل سے خالی درخت (عام زبان میں)۔ فَقْشَۃُ الثوب: کپڑے کے دامن میں شگاف (عام زبان میں)۔

فقص: فَقَصَ ۔ فَقْصًا و فِقَصاً البیضۃَ و نحوھا: انڈے کو ہاتھ سے توڑنا، پھاڑنا۔ صفت مفعولی: فَقِیصَۃ و مَفْقُوصَۃ۔ تَفَقَّصَ و انْفَقَصَت البیضۃُ عن الفرخ: انڈہ ٹوٹ کر بچے کا نکلنا۔ ○ فَقَّصَ ہ: (انڈے) سینا، (پرندے کا) انڈوں سے بچے نکالنا۔ فَقُّوص بمعنی فَقُّوس۔ تفقیص: انڈے سینا، انڈوں سے بچے نکالنا۔ آلۃ لتفقیص البیض یا آلۃ التفقیص: بچے نکالنے، انڈے سینے کی مشین (incubator)۔

فقط: فَقَّطَ الحسابَ (ت): متعین مقدار کے بعد فقط لکھنا تا کہ کوئی اس میں اضافہ نہ کر سکے۔ فَقَطْ: ف اور قط سے مرکب لفظ جس کے معنی ہیں لا غیر یعنی صرف، بس، آپ کہتے ہیں: رایتُہ مرۃ فقط یعنی میں نے اسے صرف ایک دفعہ دیکھا، یہ ظرف ہے اور زمانہ ماضی سے مخصوص ہے۔

فقع: فَقَعَ ۔ فَقْعًا و فُقُوعًا لونُہ: کے رنگ کا صاف اور خالص ہونا یا گہرا زرد ہونا، سخت پیلا ہو جانا۔ فَقِعَ ۔ فَقَعًا: رنگ کا گہرا ہونا، اس کا استعمال اکثر زرد رنگ کے لئے ہوتا ہے، سرخ ہونا (رنگ کا)۔ فَقَّعَ الادیمَ: چمڑے کو سرخ رنگ رنگنا۔ تَفَاقَعَت عیناہُ: کی آنکھوں کا سفید ہونا۔ الفاقِع (فا): خالص صاف رنگ۔ مشہور یہ ہے کہ یہ صفت کے طور پر زرد رنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ الفَاقِعَۃ جمع فَوَاقِع: الفاقع کا مونث۔ الفَقْعُ و الفِقْعُ جمع أَفْقُع و فُقُوع و فِقَعَۃ: سانپ کی چھتری جو نرم اور سفید ہوتی ہے، کھمبی۔ الفُقَعُ: سخت سپیدی۔ لونٌ فُقَاعِیّ: تیز یا گہرا رنگ۔ کہا جاتا ہے: ابیضُ فُقَاعِیّ: بہت سفید۔ الأَفْقَع م فَقْعاء جمع فُقْع: بہت سفید۔ الفَقِیع (واحد فَقِیعَۃ) (ح): کبوتر کی ایک قسم جو سفید رنگ ہوتی ہے، سرخ فام مرد۔

۲ فَقَعَ ۔ فَقْعًا و فُقُوعًا الرجلُ: گرمی کی شدت سے مرجانا، اسی سے عام لوگوں کا کہنا ہے: فَقَعَ فلانٌ: وہ غم سے حقیقت میں یا مجازاً مرگیا۔ فَقَعَتْہُ فَقْعًا الفواقعُ: مصائب نے اس کو ہلاک کر دیا۔ فَقَعَ ہُ فَقْعَ فُقْمات فَقْعًا (فی اصطلاح العامۃ): اس نے اسے مار ڈالا، حقیقت میں یا مجازاً غم یا حسرت سے مر گیا۔ الفاقِعۃ جمع فَوَاقِع: مصیبت۔

۳ فَقَعَ ۔ فَقْعًا و فُقُوعًا الغلامُ: لڑکے کا بڑھنا۔

۴ فَقَعَ ۔ فَقْعًا الشیءَ: کو چرانا۔

۵ فَقَعَ ۔ فَقْعًا الشیءُ: پھٹنا اور پھٹنے سے آواز نکلنا (سریانی عام زبان میں)۔ فَقَّعَ: بے معنی گفتگو کرنا۔ __ اصابعَہ: انگلیاں چٹخانا۔ __ الوردۃَ: گلاب کی پتی کو ایک ہاتھ پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے مار کر پھاڑنا اور آواز نکالنا۔ اِنْفَقَعَ: پھٹنا۔ فِقْعُ الذئب (نب): ایک قسم کی بڑی کھمبی جو سفید اور گیند کی شکل کی ہوتی ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ الفُقَّاع: جو یا پھلوں کی شراب۔ الفُقَّاعِیّ: جو یا پھلوں کی شراب بیچنے والا۔ الفَقَاقِیع واحد فُقَّاعَۃ: بلبلے۔

۶ اَفْقَعَ: محتاج ہونا، ضرورت مند ہونا، کا برا حال ہونا۔ الفَقْع: مفلسی۔

۷ الفَقَّاع: بڑا سخت خبیث۔ الفِقِّیع (واحد فِقِّیعَۃ) (ز): کچی انجیر (عام زبان میں)۔

○ فَقَعَ ۔ فَقْعًا: پھٹنا، بھک کرنا، دھماکے سے پھٹنا۔ فَقَّعَ: بھک کرنا، ٹوٹ جانا، تڑاقے سے کھلنا، انگلیاں چٹخانا، درز پڑنا، بال آنا۔ اِنْفَقَعَ بمعنی فَقَعَ۔ فاقِع: چمکدار زرد، چمکدار گہرا، چمکیلا، شوخ، تیز (رنگ)۔ فَاقِعَۃ جمع فَوَاقِع: چھالا، آبلہ، پھپھولا، پھنسی، گومڑا، مسا، دنبل۔

فقل: فَقَلَ ۔ فَقْلاً البیدرَ: کھلیان میں غلہ بکھیرنا۔ اَفْقَلَ المکانُ: جگہ کا سرسبز ہونا۔ الفَقْل (مص): سرسبزی۔ المِفْقَلَۃ جمع مَفَاقِل: غلہ بکھیرنے کا آلہ۔

فقم: فَقِمَ ۔ فَقَمًا و تَفَقَّمَ الرجلُ او الکلبُ: کی ناک پکڑنا۔ فَقِمَ ۔ فَقَمًا و فُقُمًا الرجلُ: کے سامنے کے دانتوں کا باہر کو نکلے ہوئے ہونا اور یوں نیچے کے دانتوں پر نہ پڑنا۔ صفت: اَفْقَم م فَقْمَاء جمع فُقْم۔ الفَقْم و الفُقْم: کتے کی تھوتھنی کا کنارہ، ایک جبڑا یا دونوں جبڑے۔ الفُقْم: منہ۔ الفُقْمَۃ جمع فُقْمات و فُقَم و الفُقْمَۃ جمع فُقُمات و فُقَم (ح): ایک قسم کی مچھلی جو شمالی سمندروں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ اور دودھ دینے والے جانوروں میں شمار ہوتی ہے۔ تھوتھنی مخروطی شکل دی

ہے۔ دانت نہیں ہوتے۔

۲-فَقِمَ -فَقَمًا و فَقْمًا و فُقُومًا الامرُ: معاملہ کا سنگین اور خطرناک ہونا یا ہوجانا۔ صفت: اَفْقَم۔ فَقْمًا و فَقَمًا الرجلُ: حیران ہونا، الجھن میں پڑ جانا۔ فَقُمَ -فَقَامَةً الامرُ: معاملہ کا سنگین اور خطرناک ہونا یا ہوجانا۔ صفت: اَفْقَم۔ الشیءُ: وسیع ہونا، کشادہ ہونا۔ تفاقَمَ الامرُ: معاملہ کا سنگین اور خطرناک ہونا یا ہوجانا۔

۳-فَقِمَ -فَقَمًا الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ کہا جاتا ہے: اکل الرجُلُ حتی فَقِمَ: مرد نے کھایا یہاں تک کہ بدہضمی ہوگئی۔ الفَقِم: سمجھدار جو مخالفوں پر غالب آجائے۔

○ فَقِمَ -فَقَمًا و فَقْمًا و فُقُومًا و فَقُمَ -فَقَامَةً و تفاقَم: سنگین، تشویشناک، اہم، قابل توجہ یا خطرناک ہونا یا ہو جانا، خطرناک طور پر بڑھ جانا، بگڑ جانا، ہولناک ہو جانا، نازک صورت اختیار کر لینا، فیصلہ کن مرحلہ پر پہنچ جانا۔ فُقْم و فُقُم (اسم جنس واحد فُقْمَة و فُقُمَة): سِیل (ایک دریائی مچھلی) (seal)۔ فُقْنُس: سیمرغ (phoenix)۔

فقه: فَقِهَ -فِقْهًا الرجُلُ: پر علم میں غالب ہونا۔ فَقِهَ - فَقَهًا: جاننا، فقیہ ہونا۔ فِقْهًا الشیءَ او الکلامَ: کو سمجھنا۔ کہا جاتا ہے: فَقِهَ عنه الکلامَ: اس نے اس کی گفتگو کو سمجھ لیا۔ فَقُهَ -فَقَاهَةً: جاننا، فقیہ ہونا۔ فَقَّهَ و اَفْقَهَ فُلانًا: کو سکھلانا، سمجھانا۔ فاقَهَ فلانًا: سے فقہ میں غالب ہونا۔ تَفَقَّهَ الرجُلُ: علم فقہ سیکھنا اور حاصل کرنا۔ الشیءَ: کو سمجھ لینا۔ الفِقْه: کسی شے کا جاننا اور سمجھنا، احکام شرعیہ کا علم (ان کے تفصیلی دلائل سے)، مہارت، حذاقت، زیرکی۔ الفَقِه و الفَقُه و الفَقِیه م فَقِهَة و فَقِیهَة جمع فُقَهاء و فَقائِه: بہت سمجھدار، عالم، ذکی، علم فقہ جاننے والا۔ المُستَفْقِهَة: نوحہ کرنے والی کا ساتھ دینے والی عورت

○ فَقِهَ -فِقْهًا ہ: کو سمجھنا، کو پوری طرح سمجھنا، کا ادراک کرنا۔ فَقِهَ -فِقْهًا و فَقُهَ -فَقَاهَةً: علم رکھنا، خصوصاً قانونی، شرعی علم رکھنا۔ فَقَّهَ ہ: کو سکھانا، پڑھانا۔ ــــ ہ فی: کو کی تعلیم دینا۔ اَفْقَهَ ہ ہ: کو کچھ سکھانا، کو کی تعلیم دینا۔ تَفَقَّهَ ہ: کو سمجھنا، کا ادراک کرنا، کو پوری طرح سمجھنا، فقہ پڑھنا۔ ــــ فی: کے علم کے حصول میں کاوش کرنا، کا علم تن دہی سے حاصل کرنا، کے لئے اپنا مطالعہ وقف کرنا، پر کام کرنا، معلومات حاصل کرنا، صحیح تصویر حاصل کرنا، واضح خیال حاصل کرنا۔ فِقْهُ اللُّغة: (دیسی عربی) لسانیات (philogy)۔ فَقَه: سمجھ، ادراک، علم۔ الفِقْه: فقہ (اسلام میں)، اصول قانون، اصول فقہ، قانون دانی، قانونی مہارت، تفقہ۔ فِقْهی: فقہ کے متعلق۔ فَقِیه جمع فُقَهاء: ماہر قانون۔ قانون دان (اور ماہر دینیات) فقہ کا ماہر، (عوامی استعمال) قرآن کا قاری، ابتدائی مدرسہ کا ٹیچر۔

فقو: فَقَا -فَقْوًا اثرَهُ: کے پیچھے جانا، کا پیچھا کرنا، کے نقش قدم پر جانا۔ فُقْوَةُ السهم جمع فُقًی: سوفار تیر

فلك: فَكَّ -فَكًّا الشیءَ: کے ایک حصہ کو دوسرے سے جدا کرنا۔ ــــ العقدةَ: گرہ کھولنا۔ ــــ العظمَ: ہڈی کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ ــــ الختمَ: مہر کو توڑ دینا۔ ــــ اللغزَ: اصل بات جان لینا، معمہ حل کرنا (عام زبان میں)۔ ــــ عددًا او عبارةً جبریّةً (ع ح): کے اجزائے ضربی بنانا جیسے ۳۰ کے ۲×۳×۵۔ ــــ المعادلةَ: تناسب کی جذور دریافت کرنا۔ ــــ فَكًّا و فِكاكًا و فَكاكًا الاسیرَ: قیدی کو آزاد کرنا۔ ــــ یدهٗ: ہاتھ کھولنا۔ ــــ ادغامَ الحرف: ادغام کو اٹھا دینا جیسے: لاتَمُدَّ میں لاتَمْدُدْ۔ ــــ فَكًّا و فُكُوكًا الرهنَ: رہن چھڑانا۔ ــــ الرجُلُ: بہت بوڑھا ہونا۔ ــــ فَكًّا و فَكَكًا العظمُ: ہڈی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ ــــ فَكًّا و فَكَّةً: ست اور بے وقوف ہونا۔ فَكَّكَ ہ: کو علیحدہ کرنا، چھڑانا۔ ــــ بمعنی حلَّل: یعنی اجزا بنانا (دیکھو فَكَّ عددًا و عبارةً جبریةً و ـ المعادلة)۔ اَفَكَّ الظبیُ من الحبالة: ہرن کا جال میں سے نکل جانا۔ تَفَكَّكَ: الگ الگ ہونا۔ ــــ المُخنَّثُ: مخنث کا ضبط نفس سے عاری ہونا، شہوت انگیز چال چلنا۔ ما اِفْتَكَّ الرهنَ: رہن چھڑانا۔ اِنْفَكَّ: جدا جدا ہونا، کھل جانا۔ ــــ العظمُ: ہڈی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ ــــ العبدُ: غلام کا آزاد ہونا۔ کہا جاتا ہے: اِنْفَكَّ یفعل کذا: وہ ایسا کرتا رہا۔ اِسْتَفَكَّ ہ: کی رہائی طلب کرنا۔ الفاكّ (فا) جمع فَكَكَة و فِكاك: بہت بوڑھا، بہت بے وقوف۔ الفَكّ (مص) جمع فُكُوك: جبڑا (اوپر اور نیچے کا)۔ الفَكَّة: اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے: فی فلانٍ فَكَّةٌ: اس میں نادانی ہے۔ الفِكاك و الفَكاك: جس سے رہن وغیرہ چھڑایا جائے۔ الفَكّاك صیغہ مبالغہ۔ الاَفَكّ م فَكّاء جمع فُكّ: وہ جس کی ہڈی جوڑ سے ہٹ گئی ہو یا اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہو۔

○ فَكَّ الحجزَ عن: کی قرقی یا ضبطی اٹھا دینا یعنی ختم کر دینا۔ لم ینفكّ: کرتے رہنا۔ اِفْتَكَّ ہ من: سے چھین لینا۔ فَكّ جمع فُكُوك: جبڑے کی ہڈی، جبڑا۔ الفكّ الاسفل: نچلا جبڑا۔ الفكّ الاعلی: اوپر کا جبڑا۔ فَكَّة: چھوٹی ریزگاری، سکے۔ فِكاك: علیحدگی، رہائی، خلاصی، چھٹکارا، کفارہ، ادائیگی، زرنقد، روپیہ، جو رہائی کے لئے دیا جائے، ڈنڈ، دیت۔ تفكیكُ الذرَّة: جوہری انشقاق (atomic/ nuclear / fission)۔ مَفكوك: ڈھیلا۔ مُفكَّك: جدا کیا ہوا، علیحدہ کیا ہوا، بے ربط، بے جوڑ (الفاظ، جملے)۔

فکت: فِکْتُوریا مَلَکِیَّة (ن): ایک پودا۔

فکر: ا-فَکَرَ -فِکْرًا و فَکْرًا و فَکَّرَ و اَفْکَرَ و تَفَکَّرَ فی الامر: کو سوچنا، پر غور کرنا، تامل کرنا۔ اِفْتَکَرَ فی الامر: پر غور کرنا (عام زبان میں)۔ الفِکر جمع اَفکار: غور و فکر، خیال۔ کہا جاتا ہے: لِی فی الامر فِکرٌ: اور میرے لئے اس معاملہ میں غور و فکر کی بات ہے۔ مَالِی فی الامر فِکرٌ او فِکر: مجھے اس معاملہ میں کوئی حاجت نہیں۔ الفِکْرَة و الفِکْرٰی جمع فِکَر: سوچ بچار، غور و فکر۔ الفِکِّیر و الفَیْکَر: بہت سوچ بچار کرنے والا۔

۲-الفاکُورَة جمع فَواکِیر: دروازہ اور کھڑکی کو اپنے آپ کھلنے سے روکنے والی کوئی چیز۔

○ فَکَرَ -فَکْرًا فی: پر غور و فکر کرنا، کا پکا ارادہ کرنا، پر نظر ثانی کرنا، پر پھر سے غور کرنا، کا ارادہ کرنا، کا خیال کرنا۔ ــــ فی/ب: کے متعلق رائے رکھنا۔ فَکَّرَ فی بمعنی فَکَرَ فی نیز فَکَّرَ ہ ہ/فی: کو کچھ یاد دلانا۔ اَفْکَرَ بمعنی فَکَّرَ فی۔ تفکَّرَ فی: پر غور و فکر کرنا، کا پکا ارادہ کرنا، کا خیال کرنا، کے متعلق رائے رکھنا۔ اِفْتَکَرَ بمعنی تَفَکَّرَ نیز اِفْتَکَرَ ہ/ہ: کی یاد آنا، کو یاد رکھنا، کو یاد آنا، کو یاد پڑنا، کو ذہن میں لانا۔ فِکر جمع افکار: سوچ بچار، غور و فکر، خیال، وہم، گمان، فکر، رائے، نظریہ، تصور۔ شارِدُ الفِکرِ: (خیالات میں) کھویا ہوا، گم، محو، مستغرق، پراگندہ دماغ، منہمک، (خیال یا خیالوں میں) ڈوبا ہوا۔ مُشَوَّشُ الفکر: پریشان، گھبرایا ہوا، حیران، الجھاؤ میں ڈالا ہوا، دہشت زدہ۔ فِکْرَة: خیال و وہم گمان، رائے، تصور، ضمیر کی خلش، ضمیر کی خلش کے باعث تذبذب، پس و پیش، تامل، ہچکچاہٹ۔ صاحبُ الفِکْرَة: (کا) خالق، موجد، مخترع، مصنف۔ علی فِکرة: ضمناً، بر سبیل تذکرہ، کے بارے میں، کے متعلق۔ فِکْرِی: فرضی، خیالی، قیاسی، ذہنی، دماغی، شعوری، عقلی۔ فِکِّیر: فکر مند، متفکر، دل گیر، مستغرق، (کے) دھیان میں محو، گیانی، سوچ بچار کرنے والا، فکر کرنے والا، تفکر پسند،

پُر، خیالات میں ڈوبا ہوا، غور وفکر کا عادی۔ مُفَکِّرَة: نوٹ بک۔ مُفَكِّرَة يَوْمِيَة: ڈائری (diary)، روزنامہ، روزنامچہ، روزانہ واقعات کا رجسٹر۔ مُفَكَّرات: خیالات، سوچیں، تاملات۔

○ فَكَشَ ـفَكْشًا: (کے جوڑ میں) موچ آنا۔ اِنْفَكَشَ: موچ آجانا۔

فکع: فَكَعَ ـفَكْعًا و فُكُوعًا: جانا۔ کہا جاتا ہے: ذهب فما يُدرى اين فكع: وہ گیا لیکن نہ معلوم کہاں گیا۔ فَكِعَ ـفَكْعًا و فُكُوعًا الرجُلُ: غم یا غصہ سے سر جھکانا۔ الفُكَع: کھانسی۔

فکل: اِفْتَكَلَ في فعله: کام کو اچھی طرح انجام دینا۔ الأَفْكَل: لوگوں کی جماعت۔ کہا جاتا ہے: جاءَ القومُ بافكلهم و بافَاكِلِهم: تمام قوم آئی) کپکپی۔ کہا جاتا ہے: أَخَذَهُ افْكَلٌ: (خوف یا سردی سے) کانپنے لگنا۔ المَفْكُوْل: جس پر کپکپی طاری ہو۔

فکن: فَكَنَ ـفُكْنًا في الكذب: جھوٹ پر ڈٹا رہنا۔ تَفَكَّنَ: تعجب کرنا، فکر کرنا، افسوس کرنا، نادم ہونا، پشیمان ہونا۔

فکہ: ـفَكِهَ ـفَكَهًا و فَكَاهَةً: خوش طبع ہونا، ہنسنے ہنسانے والا ہونا۔ صفت: فَاكِهٌ و فَكِهٌ و فَيْكَهَان۔ ـ منهُ: پر تعجب کرنا۔ ـ للشيء: سے متعجب ہونا۔ کہا جاتا ہے: لو سَمِعْتَ حديثَ فلان لما فَكِهْتَ له: اگر تم فلاں شخص کی بات سنو تو متعجب نہیں ہوگے۔ فَكَّهَ الرجُلَ: کو کلام شیریں سے خوش کرنا، کو میوہ کھلانا۔ فَاكَهَ مُفَاكَهَةً الرجُلَ: سے مزاح کرنا۔ تَفَكَّهَ: میوہ کھانا۔ ـ بالشيء: سے لذت حاصل کرنا۔ ـ به: سے فائدہ اٹھانا۔ ـ منهُ: پر تعجب کرنا۔ ـ بفلان: کی غیبت کرنا، سے دل لگی کرنا، کچھ لینا۔ کہا جاتا ہے: تركتُ القوم يتفكهون بعرض فلان: میں نے لوگوں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ فلاں کی غیبت سے لذت حاصل کر رہے تھے۔ تَفَاكَهَ القومُ: آپس میں خوش طبعی کرنا، ہنسی مذاق کرنا۔ الفَاكِه (فا): خوش طبع، میوے والا۔ الفَاكِهة جمع فَوَاكِه: الفاكِه کا مؤنث۔ ہر قسم کا پھل، جس کو کھا کر لذت حاصل کی جائے۔ فَاكِهةُ الشتاء: آگ۔ الفَكِه م فَكِهَة جمع فَكِهَات: خوش طبع، اکثر ہنسنے والا، ہمیشہ ہنستے رہنے والا، خود پسند، اکڑ باز، میوہ خور۔ الفَاكِهَاني: میوہ فروش۔ الفُكَاهَة والفَكِيْهَة: خوش طبعی۔ الأَفْكَه: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ من افكه الناس: فلاں شخص بہت مزاح کرنے والا ہے۔ الأُفْكُوْهَة جمع أَفَاكِيه: مزاح، ہنسی، مذاق۔ افَاكِيه: مذاق، شوخیاں، مضحکہ خیز حرکات، لطیفے۔

۲۔ تَفَكَّهَ: ندامت، پشیمانی۔

○ فَكِهَ ـفَكَهًا و فَكَاهَةً: خوش ہونا یا ہوجانا، خوش باش ہونا، خوش طبع ہونا، چہل باز ہونا، ہنسوڑ ہونا، دل لگی باز ہونا، ہنسانے والا ہونا۔ فَكَّهَ ہ: کا ہنسی مذاق سے دل خوش کرنا یا جی بہلانا۔ فَاكَهَ ہ: سے ہنسی مذاق کرنا، سے دل لگی کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا۔ تَفَكَّهَ ب: سے اپنا دل خوش کرنا، جی بہلانا، سے ہنسی مذاق کرنا، سے خوش ہونا۔ تَفَكَّهَ: مذاق کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا۔ فَكِه: خوش، شاداں، فرحاں، خوش طبع، چہل باز، مذاق پسند، ہنسوڑ، دل لگی باز، ہنسانے والا، دلچسپ، دل بہلانے کی چیز۔ فُكَاهَة: ہنسی مذاق، مزاح، دل لگی۔ فُكَاهِي: دلچسپ، ہنسانے والا، خوش طبع، پُر مذاق شخص، مزاح نگارانہ، مزاح نگار، مزاحیہ نگار۔ تَفَكِهَة: تفریح، کھیل، شگفتگی، حظ، لطف، مزا۔ مُفَاكَهة: دل لگی اور چھیڑ چھاڑ والی گفتگو، ہنسی ہنسی میں دھوکا دینا۔ فَاكِه: خوش، مسرت افزا، زندہ دل، خوش باش، مضحکہ خیز، خوش طبع، ہنسانے والا، دلچسپ۔

فلّ: ـفَلَّ ـفَلًّا و فَلَّلَ السيفَ: تلوار کو دندانے دار کرنا۔ ـ القومَ: قوم کو شکست دینا۔ تَفَلَّلَ و انفلَّ السيفُ: تلوار کا دندانے دار ہونا۔ ـ القومُ: قوم کا شکست کھانا۔ اِفْتَلَّ السيفُ: تلوار کا دندانے دار ہونا۔ اِسْتَفَلَّ السيفَ: تلوار کو دندانے دار کرنا۔ ـ الشيءَ: کسی چیز کا ادنیٰ حصہ لینا۔ الفَلّ (مص) جمع فُلُول: تلوار کی دھار میں ٹوٹ پھوٹ یا دندانہ۔ ــ جمع فُلُول و فِلال: وہ شے جو کسی چیز سے گرے جیسے لوہے کا برادہ، آگ کی چنگاری، جماعت۔ رجُلٌ فَلٌّ و قومٌ فَلٌّ: شکست خوردہ مرد یا قوم (واحد جمع برابر ہیں) کبھی افلال و فُلُول جمع لاتے ہیں۔ الفَلَل: تلوار کی دھار کا کند ہونا۔ الفَلَّة: تلوار کی دھار کا دندانہ۔ كتيبةٌ فَلّى: شکست خوردہ فوج کا دستہ۔ الفَلِيل: جماعت۔ سيفٌ فَلِيلٌ و افَلّ و مَفْلُول و مُنْفَلّ: دندانے دار یا کند تلوار۔

۲۔ فَلَّ ـفَلًّا عن فلان عقلهُ: (کی) عقل زائل ہونے کے بعد لوٹ آنا۔ ــ الرجُلُ: چلا جانا (عام زبان میں)۔ فَلَّلَ ہُ: کو بھیجنا (عام زبان میں)۔ الفَلَّة: جانا (عام زبان میں)۔

۳۔ اَفَلَّ القومُ: قوم کا بنجر زمین پر پہنچنا۔ ــ الرجُلُ: (کا) مال جاتا رہنا۔ الفَلّ جمع فِلّ: واحد کی طرح و افلال و الفِلّ و الفِلِّيَة جمع فَلالِيّ: خشک زمین جس میں کچھ نہ اُگے۔ کہا جاتا ہے: هو فَلٌّ من الخير: وہ خیر سے خالی ہے۔

۴۔ الفُلّ: واحد فُلَّة (ن): چنبیلی کے مانند پھول والا پودا جس کی خوشبو تیز ہوتی ہے۔ الفليل و الفَلِيلة: مجتمع بال۔

۵۔ فَلْفَلَ الطعامَ: کھانے میں مرچ ڈالنا۔ تَفَلْفَلَت حلماتُ الضرع: پستان کے بالائی حصہ کا سیاہ ہونا۔ ـ شعرُ الأَسْوَد: بالوں کا سخت گھنگریالا ہونا۔ الفِلْفِل و الفُلْفُل واحد فلفلة (ن): مرچ (کا پودا)۔ الفِلْفِل الكاذب (ن): ایک درخت جس کا پھل مرچ جیسا ہوتا ہے، آرائش کے کام میں لایا جاتا ہے۔ الفُلَيْفِلَة: فلفلہ کی تصغیر۔ (ن): ایک قسم کی سبزی، سبز بھی کھائی جاتی اور بھر کر پکائی بھی جاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: ایک مرچ کی طرح تیز دوسری میں تیزی نہیں ہوتی۔ المُفَلْفَل: شرابٌ مُفَلْفَلٌ: تیز شراب جو مرچ کی طرح منہ کو جلا دیتی ہے۔ شَعَرٌ مُفَلْفَلٌ: بہت گھنگھریالے بال۔ الرز المُفَلْفَل (ط): چاول جن کو مصالحے ڈال کر پکایا جاتا ہے۔

۶۔ فَلْفَلَ: چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا، ناز اور تکبر سے چلنا۔ ـ القومُ: ایک ایک کرکے نکل جانا (عام زبان میں)۔ تَفَلْفَلَ: چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا، ناز اور تکبر سے چلنا۔

○ فَلَّ ـفَلًّا ہ: کسی چیز جیسے تلوار کو دندانے دار کرنا، کند کرنا، کو توڑنا۔ فَلَّ: بھاگ جانا، فرار ہوجانا۔ فَلَّ غربهُ: فلّ من حِدّتِه او فلّ حديده: کو کمزور کرنا، کو افسردہ کردینا، کا دل بجھانا، کی ہمت شکنی کرنا، کو زیر کرنا، مغلوب کرنا، کو قابو میں کرنا۔ فلّ من شباه: کو کمزور کرنا۔ فَلَّلَ ہ: (کسی چیز مثلاً تلوار) کو دندانے دار کرنا، کند کرنا۔ فَلّ جمع فُلُول: سطحی نشان، فَلّ جمع فُلُول و أَفلال و فُلال: فوج کے بکھرے ہوئے بچے کھچے سپاہی۔ مَفْلُول: دندانہ دار، کند۔ فِلّ و فُلّ: عربی چنبیلی، یاسمین۔ فَلّ و فِلّ: کاگ، ڈاٹ، کارک (cork)۔ فِلّة جمع فِلات: کوٹھی (villa)، دیہاتی گھر۔

فلت: ـفَلَتَ ـفَلْتًا: چھوٹنا۔ ــ ہ: کو چھٹکارا دینا، رہا کرنا، آزاد کرنا۔ اَفْلَتَ: چھوٹنا۔ ــ ہ: کو چھٹکارا دینا۔ ــ إلى الشيء: کا مشتاق ہونا۔ تَفَلَّتَ: چھوٹنا۔ ــ إلى الشيء: کا مشتاق ہونا۔ اِنْفَلَتَ: چھوٹنا۔ تِبْغٌ فَلْتٌ: کھلا تمباکو۔ الفَلَت: چھٹکارا، چھوٹنا، رہائی۔ کہا جاتا ہے: مالكَ منه فَلَتٌ: تیرے

لئے اس سے چھٹکارا نہیں۔ الفَلْتَة جمع فَلَتَات:
فلت کا اسم مرۃ۔ بمعنی ایک مرتبہ چھوٹنا؛ مہینہ کی آخری
رات یا ماہِ حرام کے پہلے مہینہ کا آخری دن۔ کہا جاتا
ہے: هو فی بُردٍ له فَلُتٍ: وہ ایسی چھوٹی اور تنگ
چادر میں ہے جس کے دونوں پلڑے نہیں مل سکتے۔
الفَلَتِيّ: وہ شخص جو گناہوں کے ارتکاب سے اپنے
آپ کو محفوظ نہ رکھ سکے (عام زبان میں)۔ کساءٌ
فَلُوت: چھوٹی اور تنگ چادر جس کے دونوں کنارے
اوڑھنے والے کے جسم پر نہ مل سکیں۔ الفالِت (فا):
نہ بندھا ہوا مویشی؛ اپنی خواہشات پر چلنے والا جوان
شخص (عام زبان میں)۔ الفالِتَة: فالت کا مونث:
آوارہ عورت۔ النغمةُ الفالتة (عام زبان میں): ایسا
سُر جو موسیقی کی تان پر جاری نہ ہو (عام زبان میں)۔
الاِنْفِلات: جسے الانبساط بھی کہا جاتا ہے۔ (ف):
گیس کے دباؤ میں بہت تھوڑی مدت کی کمی، جیسے کار
کے وغیرہ سلنڈر میں پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ فَلَتَ فِلاتًا و مُفالَتةً ہٗ: کو اچانک آلینا، پانا۔ تَفَلَّتَ
علیه: پر جھپٹا مارنا۔ اِفْتَلَتَ الکلامَ: فی البدیہہ کہنا۔
۔۔ الشیءَ: کو جلدی سے لینا، پکڑنا۔۔ الامرَ: کو
بلا توقف کرنا۔۔ علیه: بغیر دوسرے کے کام پورا کر
دینا۔ اُفْتُلِتَ: اچانک مرجانا۔۔ بامرِ کذا: کیلئے
تیار ہونے سے پہلے ہی بھونچکارہ جانا۔۔ الشیءَ:
کسی چیز کا اس سے اچانک لیا جانا۔ اِسْتَفْلَتَ الشیءَ
من یدہ: کو سے چھین لینا۔ الفَلْتَة جمع فَلَتَات
تغافل میں کیا جانے والا کام۔ کہا جاتا ہے: خَرَجَ
الرجُلُ فَلْتَةً: وہ اچانک نکل آیا۔ حَدَثَ الامرُ
فَلْتَةً: کام بغیر سوچے سمجھے اچانک ہوگیا۔ فَلَتَات
الکلام: کلام کی لغزشیں، لایعنی باتیں۔ فرسٌ
فَلَتَان جمع فِلْتان: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ رجُلٌ
فَلَتَان: چست، دلیر، تیز طبیعت، برائی کی طرف
دوڑنے والا شخص۔ فَرَسٌ فُلَتٌ و فُلُتٌ: تیز رفتار
گھوڑا۔

○ فَلَتَ من: سے بچ نکلنا، سے کھسک جانا، بے چپکے سے
نکل جانا۔ فَلِتَ: آزاد ہونا، رہا ہونا۔۔ ہٗ/ہٗ: کو بچ
نکلنے دینا، کھسکنے دینا، چپکے سے نکل جانے دینا، کو آزاد
کرنا، رہا کرنا۔ اَفْلَتَ بمعنی فلت۔ تَفَلَّتَ من:
سے بچ نکلنا، کھسک جانا، بے چپکے سے نکل جانا، سے
رہائی حاصل کرنا؛ تفلّت: چھٹکارا حاصل کرنا، رہا
ہونا، آزاد ہونا۔ اِنْفَلَتَ من: سے بچ نکلنا، سے کھسک
جانا، بے چپکے سے نکل جانا، آزاد ہونا، سے نکلنا،
چھٹکارا پانا۔۔ آزاد ہونا، رہا ہونا۔ فَلْت: نجات،
چھٹکارا۔ فَلْتَة جمع فَلَتات: غیر متوقع واقعہ یا حادثہ،
غیر متوقع موڑ، نامعقول بیان یا عمل، لغزش، سہو، بھول
چوک، نظر کی غلطی۔ فَلْتَةً: اچانک، غیر متوقع طور پر۔
فَلاتِی جمع فَلاتِیَة: آوارہ، بدکار، عیاش، زانی،
ناکارہ۔ اِفلات: نجات، چھٹکارا۔ اِنْفِلات: نجات،
چھٹکارا۔ فالِت: بچ کر نکل جانے والا آزاد، فرار
ہونے والا؛ مفرور جمع فَلَتاء: آوارہ، بدکار، عیاش،
زانی، ناکارہ۔

فلج: الفَلَجَ ۔ فَلْجًا و فُلوجًا الشیءَ: کو پھاڑنا، دو
ٹکڑے کرنا۔۔ الحرّاثُ الارضَ: کاشتکار کا زمین
کو جوتنا۔۔ الوالی الجزیةَ بین القومِ و
علیهم: والی کا جزیہ قوم پر تقسیم کرنا، مقرر کرنا، ان پر
جزیہ مقرر کرنا۔ فَلِجَ ۔ فَلَجًا و فَلَجَةً: فالج زدہ
ہونا، قدموں، ہاتھوں یا دانتوں میں فاصلہ ہونا، صفت:
اَفْلَج م فَلْجاء جمع فُلْج۔ فُلِجَ: فالج میں مبتلا
ہونا۔ فَلَّجَ الشیءَ: کو تقسیم کرنا۔۔ الامرَ: میں نظر و
فکر اور تدبر کرنا۔ تَفَلَّجَ: پھٹنا۔ اِنْفَلَجَ الصبحُ: صبح
کا روشن ہونا۔ الفَلْج (مص) جمع فُلُوج:
آدھا۔ الفِلْج: آدھا۔۔ و الفالِج جمع فَوالِج:
پیمانہ۔ الفَلَج (مص): صبح، وحشی کے قدم پھٹنا اور
گھٹنے کا ہٹ جانا۔ الفالِج (طب): فالج (ایک
بیماری جو جسم کے ایک طرف کو بے حس و حرکت کر دیتی
ہے)۔ (ح): دو کوہانوں والا اونٹ۔ الفَلُوجَة
جمع فَلالِیج: جوتی ہوئی زمین۔ الفَلِیجَة: خیمہ کا
ایک حصہ۔ المُفَلَّجَة من الانسان: کشادہ دانت۔
المَفْلُوج جمع مَفالِیج: فالج زدہ۔

۲۔ فَلَجَ ۔ فَلْجًا و فُلْجًا القومَ و علی القومِ: پر
کامیاب ہونا۔۔ سهمُهٗ: تیر کا جیتنا۔۔ الرجُلُ:
مقصد میں کامیاب ہونا۔۔ علی خصمه: مقابل
پر غالب آنا۔۔ لهٗ: مقابل کے برخلاف اس کے حق
میں فیصلہ کرنا۔۔ بحاجته: کو ثابت کرنا۔ فالَجَ ہٗ
فَفَلَجَهٗ: کامیابی میں ایک دوسرے پر غالب آنے کی
کوشش کر کے غالب آجانا۔ اَفْلَجَ: مقصد میں کامیاب
ہونا۔۔ علی خصمه: مقابل پر غالب آنا اور
کامیاب ہونا۔۔ اللهُ فلانًا علی فلان: اللہ تعالیٰ
کا فلاں کو فلاں پر غالب کرنا۔۔ برهانَهٗ: دلیل ظاہر
کرنا، دلیل پیش کرنا۔۔ لی: کسی کا مقابل کے خلاف
میرے حق میں فیصلہ کرنا۔ الفَلْج (مص): کامیابی،
فتحمندی۔۔ جمع فُلُوج: چاند۔ الفُلْج و
الفُلْجَة: کامیابی، فتح مندی۔ الفالِج من
السهام: جیتنے والا تیر۔

○ فَلَحَ ۔ فَلْحًا ہٗ: کو لمبائی کے رخ پھاڑنا، کو ٹکڑیوں
میں بانٹنا، کو دو ٹکڑے کر دینا۔ فُلِحَ: کے نصف حصے کا
فالج ہونا۔ اِنْفَلَحَ: نصف حصہ کا مفلوج ہو جانا۔
فَلْح جمع فُلُوح: شگاف، رخنہ، درز، دراڑ۔

فلح: الفَلَحَ ۔ فَلْحًا الارضَ: زمین جوتنا۔ فَلِحَ ۔
فَلَحًا: نیچے کا ہونٹ پھٹا ہوا ہونا۔ اَفْلَح جمع فُلْح
جس کا نیچے کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو، صفت: اَفْلَح۔
فَلْحاء جمع فُلْح: نیچے کا پھٹا ہوا ہونٹ۔ الفَلْح
(مص) جمع فُلُوح: پھٹن۔ الفَلَح و الفُلْحَة:
نیچے کے ہونٹ کی پھٹن۔ الفِلاحَة و الفَلاحَة: کھیتی
باڑی۔ الفَلّاح جمع فَلّاحَة و فَلّاحُون:
کاشتکار، جانور کرایہ پر دینے والا، ملاح۔ مُتَفَلِّحُ
الشفة او الیدین او القدمین: سردی کی وجہ سے
جس کے ہونٹ، ہاتھ یا پیر پھٹ گئے ہوں۔

۲۔ فَلَحَ ۔ فَلْحًا فلانًا: کے ساتھ دھوکا کرنا۔۔ فَلاحَةً
لِلقومِ و بالقومِ: لوگوں میں سے بیچنے اور خریدنے
والے کو دھوکا دینا۔ فَلَّحَ به: سے ٹھٹھا کرنا، کو دھوکا
دینا۔

۳۔ اَفْلَحَ الرجُلُ: مطلوب میں کامیاب ہونا؛ کوشش میں
کامیاب ہونا، کام میں درست ہونا۔۔ بالشیءِ:
کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اِسْتَفْلَحَ به: میں کامیاب و
فتح مند ہونا۔ اِسْتَفْلِحِی بامرِكِ: اپنا بندوبست کر لے۔
زمانہ جاہلیت میں طلاق پر بولا جاتا تھا کہ شوہر نے
تجھے چھوڑ دیا اب اپنا انتظام کر لے۔ الفَلَح و الفَلاح:
کامیابی، خوش حالی، بقا، نجات، اذان میں کہا جاتا ہے:
حیَّ علی الفلاح: یعنی کامیابی اور نجات کے راستہ
پر آؤ۔ المَفْلَحَة: باعث کامیابی۔

○ اِنَّ الحدیدَ بالحدیدِ یُفْلَحُ: لوہا لوہے سے کٹتا
ہے۔ مرادی معنی: سختی کا سختی سے مقابلہ کرنا چاہئے۔
اَفْلَحَ و اِسْتَفْلَحَ: پنپنا، کامیابی سے چلنا (کاروبار
وغیرہ کا) فروغ پانا، خوش ہو جانا۔۔ فی: میں کامیاب
ہونا، خوش نصیب ہونا۔ فَلاح: پنپنا، فروغ، نجات،
خوشحالی، بہبود، کامیابی، کامرانی۔ فِلاحَة: کاشت،
کاشت کاری، کھیتی باڑی، زراعت۔ فَلّاح جمع
فَلّاحون و فَلّاحة: کاشتکار۔ فَلّاحَة: کاشتکار عورت۔
فَلّاحِی: کاشتکاری کا، زرعی، دیہاتی۔ فالِح: خوش
قسمت، کامیاب۔ مُفْلِح: خوش قسمت، کامیاب،
پنپنے والا، فروغ پانے والا، خوش حال۔

فلخ: فَلَخَ ۔ فَلْخًا الشیءَ: کو پھاڑنا۔۔ الامرَ: کو
واضح کرنا۔ فَلَّخَ ہٗ: کو مارنا۔ الفَیْلَخ جمع فَیالِخ:
ہاتھ کی چکی۔

فلذ: ۱۔ فَلَذَ ـ فَلْذًا له من المال شيئا: کو مال میں سے کچھ دینا۔ ـ الشیءَ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اِفتَلذَهُ المالَ: کے مال میں سے تھوڑا سا لینا۔ ـ من فلان حقّهُ: سے اپنا حق لینا، چھیننا۔ الفِلذ جمع افلاذ: اونٹ کا کلیجہ۔ الفِلذة جمع فِلَذ و فِلذ و افلاذ: جگر، گوشت یا سونے وغیرہ کا ٹکڑا۔ افلاذ الارض: زمین کے خزانے۔

۲۔ الفالوذ و الفالوذ ج و الفالُوذَق جمع فوَالِيذ (ط): فالودہ۔ (فارسی لفظ)۔ الفُولاذ جمع فوالِيذ (ك): فولاد، لوہا (فارسی لفظ)۔ المَفلُوذُ من السيوف: فولاد کی بنی ہوئی تلوار۔

○ فِلذة كبِده: اس کا اپنا خون، اس کا اپنا بچہ۔

فلز الفِلِزّ و الفِلَزّ و الفُلُزّ ایک قسم کا سفید تانبا، لوہے کا میل، زمین کی تمام دھاتیں بڑا سخت آدمی، کنجوس، جس کو تلوار کو مار کر آزمایا جائے۔

○ فِلِزّ و فِلَزّ جمع فِلِزّات: دھات۔

فلس: ۱۔ فَلَّسَ القاضی فُلانًا: قاضی کا کسی کو دیوالیہ قرار دینا۔ اَفلَسَ مفلس وقلاش ہونا۔ صفت مُفلِس جمع مُفلِسُون و مَفالِيس۔ الفَلس جمع اَفلُس و فُلُوس: پیسہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ فَلسٌ من كلِّ خير: فلاں شخص ہر بھلائی سے تہی دامن ہے۔ فُلُوسُ السمك: مچھلی کے اوپر کے چھلکے اور کھرنڈ۔ السفّلاس: صراف، پیسے فروخت کرنے والا۔ المُفلَّس (مفع): وہ آدمی یا جانور جس کی کھال پر مچھلی جیسے کھرنڈ ہوں۔

۲۔ تفلسَفَ: فلسفی ہو جانا، فلسفہ آرائی کرنا، علمی اور دانائی کی باتوں پر بحث کرنا، ماہر و حاذق ہونے کا دعویٰ کرنا۔ الفلسَفة: حکمت، دانائی، مسائل علمیہ میں غور و فکر، اشیاء کے مبادی اور علل اولیٰ کا علم۔ یہ لفظ یونانی زبان کا ہے اور فیلیا (محبت) اور صوفیا (حکمت و دانائی) سے مرکب ہے۔ یعنی حکمت کی محبت۔ الفَيلسُوف جمع فلاسِفه: فلسفی، فلسفہ کا عالم۔ ارسطو طالیس (یونانی لفظ)۔

○ فلَّسَ هُ: کو دیوالیہ قرار دینا۔ اَفلَسَ: دیوالیہ ہونا یا ہو جانا، ناکام ہونا، تباہ و برباد ہو جانا۔ تفليس: دیوالیہ پن کا اعلان (جمع) تفالیس: دیوالیہ پن، ناکامی۔ اِفلاس: دیوالیہ پن، ناکامی۔ مُفلِس جمع مَفالِيس: دیوالیہ۔ فلسطين: فلسطین (ایک ملک) Palestine۔ فلسطيني: فلسطینی جمع فلسطينيون: فلسطینی فلسطین کا باشندہ۔ فلسَفَ و تفلسَفَ: فلسفہ آرائی کرنا۔ تفلسَفَ: فلسفی بننا، اپنے آپ کو فلسفی ظاہر کرنا۔ فلسفه: فلسفہ۔ فلسفی: فلسفیانہ، فيلسُوف جمع فلاسِفه: فلسفی۔ مُتفلسِف: فلاسفی۔

فلش: فَلَّشَ الأمتِعةَ و فلفَشها: سامان کو الٹ پلٹ کرنا، بکھیر دینا، گڈمڈ کرنا، خلط ملط کرنا (سریانی عام زبان کا لفظ)۔ المَفلُوش: اپنے معاملات سے اچھی طرح نبٹ نہ سکنے والا (عام زبان میں)۔

فلص: فَلَصَ الرجُل: کو چھڑانا۔ اَفلَصَ و تفلَّصَ و اِنفلَصَ: رہائی پانا۔

فلط: ۱۔ فَلَطَ ـ فلطا عن الشیء: سے دہشت زدہ اور حیران ہونا۔ فالطَهُ: کو اچانک یا بے خبری میں آلینا، کو پانا۔ افلطَهُ الامرُ: کا کو اچانک یا بے خبری میں آلینا، یا پیش آنا۔ افتُلِطَ بالامر: میں اچانک مشغول کیا جانا۔ الفَلَط: اچانک۔

۲۔ فَلطَحَ فلطحةَ القُرصَ: ٹکیہ پھیلانا، چوڑا کرنا۔ الفِلطَاح: چوڑا کیا ہوا۔ تفلطُحُ او تبطيط الارض: زمین کے استوائی اور قطبی قطروں کے درمیان فرق استوائی قطر پر منقسم ہونے کی صورت میں جو ۱/۲۹۷ ہے جب کہ مشتری کا فرق ۱/۱۵ ہے۔

○ فِلطاح: چوڑا، چوڑا کیا ہوا، چپٹا، سپاٹ۔ مُفلطَح: چوڑا، چوڑا کیا ہوا، چپٹا، سپاٹ۔

فلع: فَلَعَ ـ فلعًا و فلّع الشیءَ: کو پھاڑنا۔ تفلَّعَ: پھٹنا۔ اِنفلَعَ: پھٹنا اور ٹکڑے ہو جانا۔ الفَلع و الفِلع جمع فُلُوع: قدم وغیرہ کی پھٹن۔ الفِلعَة جمع فِلَع: کوہان کا ایک ٹکڑا۔ الفالِعة جمع فَوالِع: مصیبت۔ سیف فَلُوع جمع فُلُع و مُفلَع: تلوار قاطع۔ مزادةٌ مُفلَعَة: چمڑے کے ٹکڑوں سے سلا ہوا توشہ دان۔

○ فَلع و فِلع جمع فُلوع: شگاف رخنہ، دراڑ پھٹن۔

فلغ: فَلَغَ ـ فلغًا راسَهُ: کا سر توڑنا، کچلنا، زخمی کرنا۔ تفلَّغَ الشیءُ: ریزہ ریزہ ہونا۔

فلق: ۱۔ فَلَقَ ـ فلقًا و فلّقَ الشیءَ: کو پھاڑنا۔ ـ اللّٰهُ الصبحَ: اللہ کا اندھیرا پھاڑ کر صبح کو ظاہر کرنا۔ تفلَّقَ: پھٹنا۔ ـ الصبحُ: صبح کا ظاہر ہونا۔ اِنفلقَ: پھٹنا۔ الفالِق (فا): پہاڑ میں شگاف۔ الفالِقة: فالق کا مونث: دو ٹیلوں کے درمیان کی ہموار زمین۔ الفَلق (مص) جمع فُلُوق: پھٹن، شگاف۔ کہا جاتا ہے: فِی رِجلِهٖ فُلُوق: اسکی پاؤں میں پھٹنیں ہیں۔ كلّمني من فَلقِ فيه: اس نے مجھ سے اپنے منہ کے شگاف سے بات کی۔ فَلقُ الرأس: سر کا وسط، مانگ۔ مُثلثاتُ الفُلُوق (ح): تین قسم کے قدیم مُتحجّر خول دار جانور۔ الفِلق: پھاڑی ہوئی چیز کا آدھا۔ كلمني من فِلقِ فيه: دیکھو كلمني من فَلقِ فيه۔ الفَلَق جمع فُلقان: صبح: دو ٹیلوں کے درمیان ہموار زمین، تمام مخلوق، اشکال کے بعد حق کی وضاحت، جہنم، پہاڑ کا شگاف۔ ـ جمع افلاق: وہ لکڑی جس میں رسی کے کنارے باندھ کر مجرم کے دونوں پیروں میں ڈالی جاتی تھی۔ ـ من اللبن: پھٹا ہوا دودھ۔ الفِلقَة جمع فِلَق: پھٹی ہوئی چیز کا آدھا، ٹکڑا۔ الفَلقَة: پھٹی ہوئی چیز کا آدھا۔ لبنٌ فُلاق و فُلُوق: پنیر بنا ہوا دودھ۔ کہا جاتا ہے: صار اللبنُ فُلاقًا و فِلاقًا و افلاقًا: ترشی کی وجہ سے دودھ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ الفُلاقة جمع فُلاق: ٹکڑا۔ الثمر الفَليق و المُفلَّق: خشک پھل جو کہ پھٹ کر گٹھلی سے جدا ہو گیا ہو۔

۲۔ اَفلَقَ الشاعِرُ: عجیب کلام کہنا۔ صفت: مُفلِق۔ ـ بالامر: میں ماہر ہونا۔ تفلّقَ: تیز دوڑنے کی کوشش کرنا۔ اِفتَلَقَ: عجیب کام کرنا، شاہکار پیش کرنا، دوڑنے کی کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے: مرَّ يفتلِقُ فی عَدْوِه: وہ دوڑ میں عجیب تیزی کے ساتھ گزرا۔ الفِلق: عجیب امر، مصیبت۔ الفِلقَة جمع فِلَق: مصیبت۔ الفَلِيق و الفليقة و المَفلَقَة و الفَلقَى: مصیبت۔ (کسی غلط بات پر تعجب کے وقت کہتے ہیں يا لَلفَلِيقَة کیا مصیبت ہے)۔ امر عجیب۔ الفَيلَق جمع فيالِق: لشکر عظیم، بڑا آدمی۔ اِمراۃٌ فَيلَقٌ: بڑی چالاک شور مچانے والی عورت۔ شاعِرٌ مُفلِق: انوکھا کلام کہنے والا شاعر۔ المِفلاق جمع مَفالِيق: فواحش اور منکر کام کرنے والا۔

۳۔ الفَلَق جمع افلاق: پیالہ کی تہ میں بچ جانے والا دودھ، حقارت کے طور پر کہا جاتا ہے: يا ابنَ شاربِ الفَلَق الفلقان: خالص جھوٹ۔ الفَلِيق: گردن کی ابھری ہوئی رگ۔ رجُلٌ فَيلَق: کانا، یک چشم۔ المِفلاق: مفلس قلاش۔ رجُلٌ مِفلاق: برا، کمینہ اور رذیل آدمی۔

۴۔ فَلقَحَ ما فی الاناء: برتن میں موجود چیز پی جانا۔ تفلقَحَ الی القوم: کو خوشخبری دینا۔ ـ الولدُ: کند ذہن ہونے کے بعد فارغ التحصیل ہونا (عام زبان میں)۔ الفَلقَحیّ: ہنس مکھ۔

○ فَلَقَ ـ فلقًا هُ: و (لمبائی کے رخ) پھاڑنا، ٹکڑیوں میں بانٹنا، تقسیم کرنا، دو ٹکڑے کرنا، چیرنا، میں شگاف ڈالنا، کو جدا کرنا، کاٹ ڈالنا، (صبح) طلوع کرنا، رات کے پردے دور کرنا (اللہ تعالیٰ کا)۔ فلّقَ هُ: کو (لمبائی

کے رخ) پھاڑنا، ٹکڑیوں میں بانٹنا، کو تقسیم کرنا، کے دو ٹکڑے کرنا، کو چیرنا، میں شگاف ڈالنا۔ تَفَلَّقَ: پھٹنا، ٹکڑیوں میں بٹنا، تقسیم ہونا، چرنا، جدا ہونا، میں شگاف پڑنا، شگافوں والا ہونا، دراڑوں والا ہونا۔ اِنْفَلَقَ بمعنی تَفَلَّقَ: تیز۔ اِنْفَلَقَ: پو پھٹنا، صبح طلوع ہونا۔ اِنْفَلِقْ: جاؤ مرو، جہنم میں جاؤ۔ فِلْق جمع فُلُوق: شگاف، پھٹن، درز، دراڑ۔ فَلَقٌ: دن، سویرا، تڑکا، فجر، طلوع صبح، طلوع سحر۔ فِلْقَة جمع فِلَق: پھٹی ہوئی یا تقسیم شدہ چیز کا نصف۔ فَلَقَة: پاکوبی کے دوران مجرم کی ٹانگیں پکڑے رکھنے کا ایک آلہ۔ فَيْلَق: فوج کی ایک بڑی یونٹ (وحدت)، فوجی دستہ، پلٹن۔

فلك ا۔ فَلَكَ ـِ فَلْكًا ثديُ الجارية: لڑکی کے پستان کا گول ہونا۔ ـــ الجاريةُ: لڑکی کے پستانوں کا گول ہونا۔ صفت: فَالِك جمع فَوَالِك۔ فَلَّكَتِ الجاريةُ: لڑکی کے پستان کا گول ہونا۔ ـــ الثديُ: پستان کا گول ہونا۔ اَفْلَكَ الثديُ: پستان کا گول ہونا۔ تَفَلَّكَ ثديُ الجارية: لڑکی کے پستان کا گول ہونا۔ ـــ فلانٌ: غیب کی خبر دینا (عام زبان میں)۔ اِسْتَفْلَكَ ثديُ الجارية: لڑکی کے پستان کا گول ہونا۔ الفُلْك: کشتی (مذکر و مؤنث)۔ الفَلَك جمع فُلْك و فُلُك و اَفْلاك: ستاروں کے چکر لگانے کی جگہ۔ ـ واحد فَلَكَة جمع فِلاك: زمین کے قطعے جو اردگرد کی چیزوں سے اونچے ہوں، ریت کا ٹیلہ جس کے گرد کھلی فضا ہو۔ ـ من البحر: موج دریا جہاں پانی جمع ہو کر چکر کھانے لگے۔ ـ من كل شيء: ہر شے کا گول اور بڑا حصہ۔ فَلَكُ البروج (فلك): دائرہ یا کرہ جسے سورج چلتے ہوئے ایک سال میں بناتا ہے۔ یہ دائرہ ۱۲ برجوں میں منقسم ہے۔ ہر دائرہ ۳۰ درجے کا ہوتا ہے۔ ـــ التدوير عند الاقدمين: (فلك) سیار ستارے کا وہ دائرہ جس پر وہ چلتا ہے جب کہ مرکز فلک ایک دوسرے دائرہ پر جو زمین کے گرد ہے پر چلا جاتا ہے۔ اسے فلک الاوج کہتے ہیں۔ عِلْمُ الفَلَك (فلك): علم ہیئت، ستاروں کا علم (astronomy)۔ الفَلِك: ابھری ہوئی ہڈیوں والا، سخت جوڑوں والا، زانو کی چپنی میں درد والا۔ رَجُل فِلْك: بڑے سرین والا مرد۔ الفلكة جمع فَلَك و فِلَك: فلک کا واحد: ہر بلند یا ابھری اور گول چیز، ایک پتھر کا گول ڈھیر۔ فلكة المغزل جمع فِلَك: چرخے کا دمکڑا، عام لوگ اسے ثقالة المغزل کہتے ہیں۔ الفلكي: فلک کا یا فلک کے متعلق، فلکی۔ علم فلکیات کا عالم، ہیئت دان (astronomer)، نجومی، جوتشی، منجم (astrologer)۔ الأَفْلَك: جو ریت کے ایسے ٹیلے کے گرد چکر لگائے جس کے چاروں طرف میدان ہو۔ الإِفْلِيكَان (ع ا): حلق کے کوے کے گرد گوشت کے دو ٹکڑے۔ المُفْلِك و المُفَلَّك من النساء: گول پستان والی عورت۔

۲۔ فَلَّكَ و اَفْلَكَ الرجلُ في الامر: پر اصرار کرنا۔

۳۔ الفِلْكَيْسِرَة (ح): ایک کیڑا جو انگور کی بیل کی جڑوں کو تباہ کر دیتا ہے۔

(c) فَلَّكَ: مستقبل کی پیشین گوئی کرنا، پیش گوئی کرنا۔ فلك جمع افلاك: آسمانی کرہ، جرم سماوی: ستارہ، دائرہ، اجرام سماویہ کا مدار۔ عِلْمُ الفلك: علم فلکیات، علم ہیئت، جوتش، نجوم۔ فُلْك (مذکر و مونث): جہاز، بہت سے جہاز، حضرت نوح کی کشتی، کشتی نوح، سفینہ نوح۔ فَلَكي: آسمانی، سماوی، فلکی، جوتش کے متعلق، ہیئت سے متعلق، فلکیاتی، جمع فَلَكِيُّون (فَلَكِية): ہیئت دان، ماہر فلکیات، فلکیات کا عالم، جوتشی، نجومی۔ عَالِمٌ فَلَكِي: ہیئت دان، ماہر فلکیات، عالم فلکیات، جوتشی، نجومی۔ مَفْلُوك: بدقسمت، بدنصیب۔ مُفَلَّك: گول پستانوں والی لڑکی۔ فَلُّوكَة جمع فَلَائِك: یک مستولی جہاز، کشتی۔ فَلَائِكي (فلايكي): کشتی والا، کشتی بان، مانجھی۔ فَلْكَنَ ہ: (ربڑ کی چیز) کی مرمت کرنا، کو ولکنائز کرنا vulcanize۔ (ربڑ کو) گندھک ملا کر سخت کرنا۔

فِلْم جمع افلام: فلم، متحرک فلم۔ فِلْمٌ مُجَسَّمٌ: تین ابعاد والی فلم (3D film)۔ فِلْمٌ مُلَوَّن: رنگین فلم، فلم نَاطِق: بولتی فلم۔

فَلَمَنْدِي: ملک فلینڈرس کی زبان، فلینڈرس کی، ملک لینڈرس کا باشندہ (Fleming, Flemish)۔ فَلَمَنْكِي: ولندیزی، ہالینڈ کا، نشیبی ممالک کا باشندہ (یعنی ہالینڈ اور بلجیئم کا)۔

فلم: اِفْتَلَمَ انفَهُ: (ک) ناک کاٹنا۔ الفِلْم جمع اَفْلَام: فلم، فلمی کہانی۔ کہا جاتا ہے: فِلْمٌ جميل: خوبصورت فلمی کہانی۔

فلن: فُلَانٌ و فُلَانَةٌ: فلاں ذوی العقول کے ناموں کی جگہ بطور کنایہ بولے جاتے ہیں۔ اسی لئے ان پر الف لام (علامت معرفہ) داخل نہیں ہوتے۔ فلانة: غیر منصرف ہے۔ کہا جاتا ہے: جاء فلانٌ و لكن جاءت فلانةُ۔ کبھی غیر ذوی العقول کے لئے بھی کنایہ ہوتے ہیں۔ اس وقت ان پر الف لام ال داخل ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو: ركبتُ الفلانَ۔ حلبتُ الفلانةَ: (میں نے فلاں جانور پر سواری اور فلاں جانور کا دودھ دوہا)۔

(c) فلان مونث فلانة: فلاں (کسی شخص یا چیز جس کا نام نہ لیا جائے یا جو غیر متعین ہو کی جگہ استعمال ہوتا ہے)۔ فُلَان: فلاں So and so۔ فُلَاني مونث فُلَانية: (فلاں کی صفت)۔ في الساعة الفلانية: فلاں وقت (at such and such time)۔

فَلِّين و فَلِّينة: کارک (cork)، ڈاٹ۔ فَلِّنْكَة جمع فَلَنْكَات: ریل کی پٹری کا سلیپر۔

فلو: ا۔ فَلَا ـُ فَلْوًا و فَلَاءً: سفر کرنا۔ اَفْلَى الرجلُ: جنگل کی طرف جانا یا اس میں داخل ہونا۔ الفلاة جمع فَلَوات و فَلا و فُلِيّ و فِلِيّ و جمع فلا: اَفْلاء: وسیع بیابان۔ الفلا عند العامة: کھلی زمین (جس پر چھت نہ ہو) کہتے ہیں: نام في الفلا: وہ ایسی جگہ سویا جس پر چھت نہ تھی۔

۲۔ فَلَا ـُ فَلْوًا و فِلاءً الصبيَّ او المهرَ: بچے یا بچھیرے سے دودھ چھڑانا اور ماں سے جدا کرنا۔ ـــ الغلامَ: لڑکے کی پرورش کرنا۔ اَفْلَى الصبيَّ او المهرَ بمعنی فلا الصبي او المهرَ و ـ الغلام بمعنی فلا الغلامَ۔ ـــ ت الفرسُ: گھوڑی کا بچھیرے والی ہونا یا اس کے بچھیرے کا دودھ چھڑانے کے وقت کو پہنچنا۔ صفت: مُفْلٍ و مُفْلِيَة۔ اِفْتَلَى الصبيَّ او المهرَ: بچے یا بچھیرے کا دودھ چھڑانا اور اس کی ماں سے جدا کرنا۔ ـــ الغلامَ: لڑکے کی پرورش کرنا۔ ـ هُ لنفسه: کو اپنے لئے لینا۔ الفِلْو جمع اَفْلاء و فِلاء و الفَلُوّ و الفُلُوّ جمع افلا و فَلاوَى و فِلْوَة و فُلُوَّة: گدھے کا بچہ یا بچھیرا جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو یا دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچ گیا ہو۔

۳۔ فَلَا ـُ فَلاءً و فَلْوًا ہ بالسيف: کو تلوار سے مارنا۔ ـ القومَ: قوم کے درمیان میں آنا۔

(c) فِلْو جمع اَفْلاء و فَلُوّ و فُلُوّ جمع افلاء و فَلاوَى: بچھیرا، گدھی کا بچہ۔ فَلاً (اسم جمع واحد فلاة) جمع فَلَوات و اَفْلاء: بے آب بیابان، ریگستان، کھلا علاقہ، کھلی جگہ۔ المَفَالِي: چراگاہیں، چرنے کی زمینیں۔ فِلُوْر: فلورین fluorine۔ مُفَلْوَر: ٹیوب کی روشنی دینے والا fluorescent۔

فلی: ا۔ فَلَى ـِ فَلْيًا الامرَ: کا جائزہ لینا، کی جانچ پڑتال کرنا۔ ـ الشعرَ: شعر پر غور کر کے اس کے معانی اور غرائب کا استخراج کرنا۔ ـــ زيدًا عن عقله: کی آزمائش کرنا۔ اِفْتَلَى القومَ بعينه: لوگوں کو غور سے دیکھنا۔

۲۔ فَلَى ـِ فَلْيًا و فَلَّى تَفْلِيَةً راسَهُ او ثوبَهُ: سر یا

کپڑے سے جوئیں نکالنا۔ تَفَلّٰی: سر یا کپڑے میں سے جوئیں نکالنا۔ الطائِرُ: پرندہ کا چونچ سے پروں کو کھجلانا۔ تَفَالٰی: کسی سے جوئیں نکالنے کی خواہش کرنا۔ ۔ ت النساءُ: ایک دوسرے کی جوئیں نکالنا۔ ۔ ت الحُمُرُ: گدھوں کا ایک دوسرے کے بدن سے رگڑنا اور کھجلی مٹانا۔ اِسْتَفْلٰی: کسی سے جوئیں نکالنے کی خواہش کرنا۔ الفِلایَۃ: جوئیں نکالنا۔

۳۔ فَلٰی ۔فَلْیًا ہُ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ ۔ القومَ: لوگوں کے درمیان میں آنا۔ فَلِیَ یَفْلٰی فَلاً الشیٔ: کٹنا، منقطع ہونا۔ اَفْلٰی و اَفْتَلٰی القومَ: لوگوں کے درمیان آنا۔ اِسْتَفْلٰی ہُ: کو تلوار سے پھاڑنے کے درپے ہونا۔ الفالِیَۃ: چھری۔

۴۔ الفالیۃ (ح): داغدار گبریلا جو سانپوں کے قریب رہا کرتا ہے اور اسی وجہ سے اسے فالیۃُ الافاعی بھی کہتے ہیں۔ فالیۃ الافاعی: مقدمات شر کا پیش خیمہ۔ الفَلْیُون و فَلْیُونۃ عند النصاری: وہ لڑکا جسے کوئی شخص بپتسمہ کے لئے پیش کرے، لڑکا اس شخص کا دینی بچہ ہوتا ہے۔ وہ شخص اس کا دینی باپ، ایسی بچی اس کی دینی بیٹی اور وہ شخص اس کا دینی باپ اور جو عورت اس بچے/ بچی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ ان کی دینی ماں کہلاتی ہے (اٹلی زبان کا لفظ)۔ الفِلّین واحد فِلّینَۃ: ڈاٹ (cork) (یونانی لفظ)۔

○ فالِیَۃ: گوبر کا داغدار بھونرا۔

○ الفلبین: جزائر فلپائن۔

فم: الفَمُ و الفُمُ و الفِمُ من الانسان (ع ا): منہ۔ یہ اصل وضع کے لحاظ سے فُوۃٌ۔ اس کا تثنیہ فَمان و فَمَوان و فَمَیان ہے اور اس کی جمع اَفْواہٌ (اس کے اصل کے اعتبار سے) اور اَفْمَامٌ۔ اور نسبت کرتے وقت فَمِیّ اور فَمَوِی استعمال کرتے ہیں۔

○ فَمٌ و فَمٌ (رفعی حالت میں فُو بھی) جمع افواہ جمع أفمام: منہ (انسان کا)، تھوتھنی (جانور کی) (بندوق کی نال کا) منہ، (خلا، جوف گڑھے وغیرہ کا) موہنہ، دہانہ، موکھا، روزن، سوراخ، موری، (دریا کا) دہانہ، (نہر کا) پرلا سرا، (سگرٹ، پائپ کا) مہنال، سگرٹ دار (Cigaratte holder)۔ فَمُ الحوت: ایک ستارہ کا نام۔ آلات الفم: ہوا باجے، پوں، باجے (wind instruments)۔

فن: ۱۔ فَنَّ ۔فَنًّا الشیءَ: کو مزین کرنا، آراستہ کرنا۔ ۔ الابلَ: اونٹ کو دفع کرنا، ہانک کر لیجانا۔ فَنَّنَ الناسَ: لوگوں کو جدا جدا کرنا، لوگوں کی مختلف قسمیں اور جماعتیں مقرر کرنا۔ ۔ رایَہُ: طرح طرح کی رائے بدلنا۔ ۔الشیءَ بالشیءِ: ایک چیز کو دوسری میں ملانا، کو آپس میں خلط ملط کرنا۔ تَفَنَّنَ الشیءُ: قسم بہ قسم ہونا، متنوع ہونا۔ ۔ فی الحدیث او فی عملہ: بات کو عمدگی اور خوش اسلوبی سے بیان کرنا۔ اِفْتَنَّ: قسم بہ قسم ہونا، متنوع ہونا۔ ۔ فی خصومتِہٖ: دشمنی کی مختلف قسمیں استعمال کرنا۔ ۔ الحمارُ باُتُنِہٖ: گدھے کا گدھیوں کو دائیں بائیں سیدھا یا بے سیدھ دھکیلنا اور ہانکنا۔ اِسْتَفَنَّ فرسَہٗ: گھوڑے کو کئی چالیں چلانا۔

الفَنّ (مص) جمع اَفْنان و فُنُون و جج اَفانِین: ہر شئے کی ایک نوع اور قسم، رنگ، حال، فن، فنکاری (art)۔ فُنُونُ الشِعْرِ: شعر کی قسمیں۔ الفُنُونُ الجَمِیلَۃُ: فنون لطیفہ (the fine arts) (تصویر کشی، مصوری، سنگ تراشی، مجسمہ سازی، موسیقی، شاعری، بلاغت، فن تعمیر، رقص)۔ الفنون اللذیذۃ: رقص، موسیقی، گلوکاری، گھڑ سواری جن سے لذت حاصل ہو۔ الفنون الحرّۃ: جن میں دستکاری سے زیادہ سوچ سے کام لیا جائے جیسے شعر گوئی۔ الفنون الیَدویۃ او الحِیَلِیَۃ: جن میں عقل سے زیادہ ہاتھ کا کام ہو جیسے سنگ تراشی۔ افانین الکلام: کلام کے مختلف اسلوب۔ کہا جاتا ہے: ھو فِنُّ عِلمٍ: وہ علم کی ذمہ داری اچھی طرح نباہ رہا ہے۔ الفَنَّۃ: اسم مرۃ۔ الفَنَّان: فنکار، تخلیق کار، جنگلی گدھا جو کئی طرح دوڑتا ہے۔ الأُفْنُون جمع اَفانِین: قسم۔ المِفَنّ م مِفَنَّۃ: عجیب وغریب ایجادات کرنے والا۔ التَّفْنِین فی الثوب: بافت میں ناہمواری۔ کہا جاتا ہے: ثوبٌ ذو تفنین: ناہموار بافت۔ المُتَفَنِّن (فا): گونا گوں حالات والا، گونا گوں صنعتوں والا۔

۲۔ فَنَّ ۔فَنًّا الرجلَ: کو مشقت میں ڈالنا۔ الفَنّ: مشقت۔ کہا جاتا ہے: لقیتُ منہ فَنًّا: اس سے مجھے تکلیف پہنچی۔

۳۔ فَنَّ ۔فَنًّاہُ فی البیع: کو فروخت میں نقصان پہنچانا۔ ۔ الدَّینَ: قرض کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا۔

۴۔ تَفَنَّنَ: مضطرب ہونا۔ الفَنَن جمع اَفْنان و جج اَفانِین: سیدھی شاخ، سیدھی ٹہنی۔ الفَنَّۃ: بہت گھاس۔ شجرۃٌ فَنّاء و فَنْواء: بہت شاخوں والا درخت۔ الأُفْنُون جمع اَفانِین: گنجان ٹہنی، آغاز جوانی، پہلا بادل، مضطرب کلام۔ الفَیْنان: لمبے بالوں والا۔ شعرٌ فینان: لمبے خوبصورت بال۔

۵۔ الفَنَّۃ: زمانہ کی ایک مدت۔ الأُفْنُون جمع اَفانِین (ح): سانپ۔ المُفَنَّنۃ: بدخلق بوڑھی عورت۔

○ فَنَّنَ ہ: میں تنوع پیدا کرنا، کو بدلنا، کو مختلف کرنا، کو بوقلموں بنانا؛ میں اختلاف یا رنگارنگی پیدا کرنا، کو خلط ملط کرنا، میں آمیزش کرنا، میں ملاوٹ کرنا۔ تَفَنَّنَ: گونا گوں، بوقلموں، طرح طرح کا، مختلف النوع، بھانت بھانت کا، رنگا رنگا، انواع و اقسام کا، قسم قسم کا، مختلف، کئی پہلوؤں والا یا ہمہ گیر ہونا یا ہو جانا، مختلف قسموں کا استعمال کرنا۔ ۔ فی: میں ماہر ہونا، استاد، استادفن یا ماہر فن ہونا، میں کمال حاصل کرنا، استاد ہو جانا، حاوی ہونا۔ اِسْتَفَنَّ بمعنی تفنّن۔ فَنٌّ جمع فُنُون و اَفْنان و افانین: قسم، مثال، بوقلمونی، مختلف چیزوں کا مجموعہ۔ جمع اَفانِین: کے مختلف پہلو، گونا گونی، تفاوت۔ اَفانِین مِن: سب قسم کی، متعدد، متفرق، چند مختلف، گونا گوں، طرح طرح کا۔ الجنونُ فنون: پاگل پن کئی قسم کا ہے اور کئی طرح اپنا اظہار کرتا ہے۔ جمع فُنُون: سائنس ادب، کام کا میدان، خصوصی شعبہ، امتیازی خصوصیت، فن (art)۔ الفن الحربی: فن حربی۔ الفنون الجمیلۃ یا الفنون الرفیعۃ یا الفنون المستظرفۃ: فنون لطیفہ۔ فَنُّ المکتبات: لائبریری سائنس/علم Library science۔ الفَنُّ الصُّحُفِی: صحافت کا علم، صحافت suience of journalism, journalism)۔ فَنّی: خصوصی، متخصص، سپیشلسٹ، ماہر، پیشہ ورانہ، پیشہ ور، صنعتی، فنی، ماہرانہ، ہنرورانہ، تکنیکی، فنکارانہ، فنکار، شاطرانہ، مصافیاتی فوجی ترتیب سے متعلق، لشکر کشی سے متعلق، جنگی، حربی، حکمت عملی یا چال کا یا کے متعلق، فنی ماہر، مستری، کاریگر، فنکار۔ فَنِّیَۃ: فنکاری۔ فَنَن جمع اَفْنان: ٹہنی، شاخ۔ فَنّان جمع فَنّانُون: فنکار، عاملٌ فَنّان جمع عُمّالٌ فَنّانُون: فنکارانہ صلاحیت کا دستکار، تجارتی فنکار (commercial artist)۔ فَنّانَۃ: فنکارہ (فن کار عورت)۔ اُفْنُون جمع اَفانِین: (درخت کی) شاخ، ٹہنی۔ تَفَنُّن: تنوع، رنگارنگی، گونا گونی، تعدد، مختلف الانواعی، متعدد پہلوؤں والا ہونا، ہمہ دانی، قسم قسم کی سرگرمی، مختلف شعبوں میں سرگرمی یا عمل یا مستعدی، پوری مہارت، کمال، دسترس، ماہرانہ یا طرحدار اسلوب۔ اِفْتِنان: بمعنی تفنن۔ مُتَفَنِّن: کثیرالاضلاع متعدد پہلوؤں والا، ہر فن مولا ہمہ دان، صاحب کمال، متلون، غیر مستقل۔ مُفْتَنّ: ماہر، حکومت پسند، اپنے میدان یا شعبہ میں صاحب کمال۔

فنأ: الفَنْءُ: جماعت، گروہ۔ الفَناء: کثرت، بہتات۔

فنج: ۱۔ فَنْجَرَ عینیہ: ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا (عام زبان میں)۔ الفناجِرۃ: ماہر گھوڑے سوار۔

۲۔ الفِنجَان جمع فَناجِین: پیالہ، پیالہ (قہوہ وغیرہ پینے کا) (فارسی لفظ پنگان کا معرب)، سر کا ایک زیور۔ الفنجانة: پیالی (قہوہ وغیرہ پینے کی)

○ فَنَار جمع فَنارات: روشنی کا مینار (light houre)۔

فِنجَال جمع فَناجِیل: پیالہ (بمعنی فنجان)

جَعَلَ زَوبَعَةً فی فنجان: اس نے ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیا، معمولی سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ (He caused a tempest in a tea-cup)۔

فنجر عینیه فی: کسی شخص یا چیز کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔

فنخ: ا۔ فَنَخَ ـفَنخاً ہ: پر غالب ہونا، کو مطیع بنانا۔ — عظمَهُ: بغیر چیرے اور خون نکالے ہڈی کو توڑ دینا۔ — فَنخاً و فنوخاً: کو خوب اچھی طرح قتل کرنا۔ فَنَّخَ ہ: پر غالب ہونا، کو مطیع بنانا۔ — عظمَهُ: بغیر چیرے اور خون نکالے ہڈی کو توڑ دینا۔ أفنخ رأسهُ: کا سر کچلنا، کو مطیع کرنا۔ تفنخ ہ: پر غالب ہونا، کو بہت بری طرح سے ذلیل کرنا۔ الفَنِیخ: نرم، کمزور، بوڑھا۔ المِفنخ: دشمنوں کی اکثر سرکوبی کر کے ان کو ذلیل کرنے والا۔

۲۔ فَنخر فَنخرةً: نتھنے پھلانا۔ الفُناخِر و فُناخِرَة: بڑی ناک والا، بڑے ڈیل ڈول والا۔ الفُنخُرم فُنخرة: بڑے ڈیل ڈول والا۔ الفِنخِیرة: بہت فخر کرنے والا۔

○ فَنخ ـفنخاً ہ: کو نچوڑنا، بھینچنا، دبانا، کچلنا، کو باطل کرنا، فسخ کرنا، ناجائز کرنا، بے کار کرنا، بے اثر کرنا، کالعدم کرنا (ٹھیکہ، معاہدہ) توڑ دینا۔

فند: ا۔ فَنِدَ ـفَنَداً: سٹھیانا، بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہونا۔ — فی الرای او القول: رائے یا قول میں غلطی کرنا۔ فَنَّدَهُ: کی رائے کی غلطی یا کمزوری واضح کرنا، کو ملامت کرنا۔ — الحساب: حساب کی تفصیلات پیش کرنا (عام زبان میں)۔ أفند: سٹھیا جانا، بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہو جانا۔ — فی الرای او القول: رائے یا قول میں غلطی کرنا۔ — ہ: کی رائے کی غلطی واضح کرنا۔ — ہُ الکِبَرُ: بڑھاپے کا کسی کو ضعیف العقل کر دینا۔ الفَنَد (مص) جمع أفناد: عاجزی، کفران نعمت۔

۲۔ فَنَدَ ـفندا و افند: جھوٹ بولنا۔ فَنَّدَهُ: کو جھٹلانا۔

۳۔ فَنَّدَ فی الشراب: شراب پر مداومت کرنا۔

۴۔ فَنَّدَ الفرس: گھوڑے کو دبلا اور چھریرا بنانا۔ — الکرم: انگور کی بے مصرف شاخوں کو کاٹ ڈالنا (عام زبان میں)۔ الفِند جمع فنود و أفناد: ٹہنی، شاخ۔

۵۔ فَنَدَ و فانَدَ و تفنّدَ فلاناً علی الامر: سے کسی کام کی طلب کرنا یا اس کا ارادہ رکھنا۔

۶۔ تفنّد من کذا: پر نادم و پشیمان ہونا۔

۷۔ الفَنَد: بڑا پہاڑ۔ الفِند جمع فُنود و أفناد: بڑا پہاڑ، قسم، نوع، مجتمع قوم۔ (کہا جاتا ہے: أتوا أفناداً: وہ جماعتوں کی صورت میں آئے، گروہ در گروہ آئے) وہ زمین جس پر بارش نہ ہوئی ہو۔ أفنادُ اللیل: رات کے حصے، رات کے پہر۔

۸۔ الفُندُق جمع فَنادِق: سرائے، ہوٹل، ایک جھاڑی ہیزل کے پھل کی گری۔ الفنداق جمع فَنادِیق: حساب کا رجسٹر۔

○ فَندَہ: کو جھوٹا کہنا، کو غلط ثابت کرنا۔ — ہ/ ہ: کو غلط ثابت کرنا، کی تغلیط کرنا، کی تردید کرنا۔ — ہ: کو ترتیب دینا، کی درجہ بندی، کی تعیین کرنا، کی صراحت کرنا، کی تفصیلات دینا؛ کو مفصل بیان کرنا، کو پوری طرح بیان کرنا؛ کے کوائف درج کرنا، کو شق وار لکھنا۔ أفندَہ: کو غلط ثابت کرنا۔ — ہ/ ہ: کو غلط ثابت کرنا، کی تغلیط کرنا، کی تردید کرنا۔

فنر: الفَنار جمع فنارات: روشنی کا مینار، کاغذ کی لالٹین، مشعل۔

فنس: الفانُوس جمع فوانِیس: چغل خور، مشعل، لالٹین (غالباً یہ لفظ غیر عربی ہے)۔

فنش: فنش فی الامر: کو ڈھیل دینا۔ میں سست ہونا۔

○ فَنَّطَ ہ: کو مفصل بیان کرنا، کا نام بنام ذکر کرنا، کو تفصیل وار بیان کرنا، کو شق وار شمار کرنا۔

فنط: الفِنطاس جمع فَناطِیس: بحری جہاز میں پانی کا تالاب، میٹھے پانی کا حال پیالہ، پیالہ جس میں میٹھا پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ انفٌ فِنطاس: چوڑی ناک۔ الفِنطِیسة: سور کی تھوتھنی۔ الفِنطِیس جمع فَناطِیس: کمینہ، چوڑے نتھنوں اور چپٹے بانسہ والی ناک، چوڑی ناک والا۔

فنع: فَنِعَ ـفَنَعاً: مالدار ہونا صفت: فَنِع و فَنِیع۔ الفَنَع (مص): سخاوت کی زیادتی، فضل واسع، ہر شے کی کثرت، مشک کی مہک۔ کہا جاتا ہے: مسک ذو فنعٍ: پھیلی ہوئی خوشبو والی مشک۔ المِفنَع: اچھی شہرت والا، نیک نام۔

○ فنغراف جمع فنغرافات: صوت نگار آلہ، فونوگراف (phonograph)۔

فنق: ا۔ فَنِقَ و فانَقَ الغُلامَ: لڑکے کو ناز و نعمت سے پالنا۔ أفنَقَ: بختی کے بعد صاحب نعمت ہونا۔ تفنّق الغُلام: لڑکے کا ناز و نعمت سے زندگی بسر کرنا۔ جاریة فُنُق و مِفناق: ناز و نعمت میں پلی ہوئی لڑکی۔ الفَنِیق جمع فُنُق و أفناق: نر اونٹ جسے اس کی شرافت کی وجہ سے نہ تو سواری کے کام میں لایا جاتا ہو اور نہ تکلیف پہنچائی جاتی ہو۔ الفَنِیقة جمع فَنائِق: ناز و نعمت میں پلی ہوئی عورت۔ عَیشٌ مُفانِق: خوش عیش زندگی۔

۲۔ تفنّق فی الامر: کام میں ہوشیاری سے کرنا۔

۳۔ الفَنِیقة جمع فَنائِق: گون سے چھوٹا بورا۔

○ تفنّقَ: خوش عیش ہونا، ناز و نعم کی زندگی گزارنا۔

فنك: ا۔ فَنَكَ ـفُنوكاً بالمکان: جگہ میں اقامت کرنا۔ — و أفنَكَ علی الامر: کام میں مداومت کرنا۔ — فی الامر: میں جمے رہنا، لگے رہنا۔ فَنَّكَ تفنیکاً فی الشر او الکذب: شر اور جھوٹ میں منہمک رہنا۔ فانَكَ مُفانَكَةً فی الامر: کام کرتے رہنا۔ — فی الشرّ او الکذب: برائی اور جھوٹ میں منہمک رہنا، پر اصرار کرنا۔ الفِنك: دروازہ۔

۲۔ فَنَكَ ـفُنوكاً و أفنَكَ: جھوٹ بولنا۔

۳۔ الفَنك: تعجب۔ الفِنك و الفُنُك: رات کا ایک پہر۔ الفَنَك: تعجب، رات کا ایک پہر۔ (ح) لومڑی کی طرح کا ایک جانور جس کا سمور بیش قیمت ہوتا ہے۔ الفَنِیك: انسان کے جبڑوں کے ملنے کی جگہ، پرندوں کی دُم نکلنے کی جگہ۔ حامِضُ الفنیك (ك): فنول (phenol)، کاربالک ایسڈ (carbolic acid) اسے فنیک بھی کہتے ہیں (فرانسیسی لفظ)۔ الإفنیك: پرندے کی دم نکلنے کی جگہ۔ المُتفنِّكة: بے وقوف عورت۔

○ فِنلَندا: فنلینڈ (Finland) (ایک ملک کا نام)۔ فِنلَندی: فنلینڈ کی زبان، فنلینڈ کا باشندہ۔

فنو: الفَناة جمع فَنَوات: مینگنی۔ — جمع فَناً (ن): مکو کا دانہ (عنب الثعلب)۔ شَجَرةٌ فَنواء: بہت شاخوں والا سایہ دار درخت۔

فنی: ا۔ فَنِیَ و فَنی یَفنَی فَناءً: معدوم ہونا، فنا ہونا۔ — الرجُلُ: بہت بوڑھا ہونا۔ أفنی إفناءً الشیءَ: کو معدوم کرنا، فنا کرنا، ہلاک کرنا۔ تفانی القومُ: بعض کا بعض کو ہلاک کرنا۔ الفانی (فا): بہت بوڑھا، مرنے کے قریب شخص۔ کہا جاتا ہے: صار شیخاً فانیاً: وہ بہت بوڑھا ہو گیا۔ الفَناءُ (مص): بقا کی ضد، ہلاکت۔

۲۔ فانی مُفاناةً الرجُلَ: کی مدارات کرنا، کو دم دلاسا دینا یا تسکین دینا۔ کُمَیت کا قول ہے: کما یفانی الشموسَ قائدُها جس طرح اڑیل گھوڑے کو ہانکنے

والا دلاسا دیتا ہے تا کہ اس کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ المالَ: کی اصلاح کرنا، کہا جاتا ہے: کان یفانی الایامَ لاهیًا: وہ زمانہ کو کھیل کود میں بسر کیا کرتا تھا۔

۳۔ الفِنَاء جمع أَفْنِيَة و فُنِیّ: گھر کے سامنے کا میدان، صحن۔ فِنَاءُ الطیور: مرغیوں، خرگوشوں وغیرہ کے ڈربے۔ کہا جاتا ہے ھو من أَفْنَاءِ الناس: وہ غیر معروف النسب ہے۔ واحد فَنْوٌ۔

○ فَنِیَ فی: میں مستغرق ہونا۔ لایفنی: لازوال، اَمر، اٹل، جو ختم نہ ہو سکے۔ اَفْنَی ہ/ہ: کو نیست و نابود کرنا، کو تباہ و برباد کرنا، کو ختم کر دینا، خرچ کر دینا، برت ڈالنا، اڑا دینا، ضائع کر دینا، صرف کرنا۔ ہ ہ: کو سے خرچ کرا دینا، ختم کرا دینا۔ تَفَانَی فی: سے صرف ہونا، خرچ ہو جانا، میں اپنے آپ کو کھو دینا، کی پوری مدد کرنا، دل و جان سے اپنے آپ کو کیلئے وقف کر دینا۔ فَنَاء: مرجانا، ختم ہو جانا، تباہی، بربادی، فناء کامل، زوال، فنا، اختتام، انعدام، باقی نہ رہنا، نیستی، عدم، لاوجود، انفرادی شعور کا باقی نہ رہنا، خودی کا مٹانا۔ فِنَاء: کھلا ہال، صحن، گھر کے ایک طرف کھلی جگہ۔ رَحَابَةُ الفناء: مہمان نواز استقبال، فیاضانہ مہمان نوازی۔ یسار یخطو فی فناء الغرفة: وہ کمرے میں ٹہلا۔ اِفْنَاء: نیست و نابود کرنا، تباہی بربادی۔ تَفَان: ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنا، نفس کشی، (کسی سرگرمی میں) قربانی، ایثار۔ فَانٍ: مٹ جانے والا، گزر جانے والا، نقش بر آب، چند روزہ، فانی، ناپائدار، سریع الزوال، دم بھر کا، بہت عمر رسیدہ۔

فنیقی: فونیشیا کا رہنے والا۔ فینیقیة و فنیقیا: فونیشیا (ساحل شام پر واقع)۔

فة: فَهِهَ - فَهَاهَةً: بول چال میں درماندہ و عاجز ہونا۔ صفت فَهٌّ و فَهِيهٌ۔ فَهَّ - فَهَاهَةً: بمعنی فَهِهَ۔ — فَهًّا الشیءَ و عن الشیءِ: کو بھول جانا۔ فَهَّهَ اللّٰهُ الرجُلَ: اللہ کا آدمی کو عاجز کرنا۔ أَفَهَّ اللّٰه الرجلَ: بمعنی بالا۔ الشیءَ: کو کوئی بات وغیرہ بھلا دینا۔ الفَهَّة: الفہ کا مونث، عاجزی، غفلت، لغزش، کہا جاتا ہے ما رایتُ منه فَهَّةً: میں نے اس کی کوئی لغزش نہیں دیکھی۔

○ فَهَاهَة: کمزوری، بے بسی، نامردی۔

فهد: افَهَدَ - فَهْدًا لفلان: کسی کے کام کو اس کی غیر حاضری میں، اچھا کرنا۔

۲ فَهِدَ - فَهَدًا: (سونے، انگڑائی لینے یا غصہ میں) تیندوے جیسا ہونا، کسی ضروری کام سے غفلت کر کے سو جانا۔ صفت فَهِدٌ و فَهْدٌ۔ - عنه: سے غافل ہونا۔ الفَهْد جمع فُهُود و أَفْهُد (ح): تیندوا (کتے سے بڑا اور چیتے سے چھوٹا)۔ الفَهْدَة جمع فَهَدات: تیندوے کی مادہ۔ الفَهَّاد: تیندوے کو شکار سکھانے والا، تیندوے والا۔

۳۔ الفَهْدَة: سُرین، چوتڑ۔ الفَوْهَد م فَوْهَدة و الأُفْهُود جمع أَفَاهِید: کم سن موٹا تازہ لڑکا۔

فهر: افْهَرَ الفرسُ: کے چلنے میں تھکن اور عجز کا پیدا ہونا۔ - الرجُلُ: تھک جانا۔

۲۔ فَهَّرَ زیدٌ: موٹائی اور گوشت کے مجتمع ہو جانے سے بدزیب ہونا۔ المَفَاهِر: سینہ کا گوشت۔

۳۔ أَفْهَرَ: فُهُر (یہودیوں کی عید) میں شریک ہونا۔ الفُهر: یہودیوں کی ایک عید یا بائبل سکول جس میں وہ اپنی عید کے دن اکٹھے ہوتے ہیں۔

۴ تَفَهَّرَ فی المال و الکلام: مال میں اضافہ ہونا، کلام میں معتبر ہونا۔

۵۔ الفِهْر جمع أَفْهَار و فُهُور و الفِهْرَة (طب): دوا رگڑنے کا باریک پتھر۔

۶۔ فَهْرَسَ فَهْرَسَةً الکتابَ: کتاب کی فہرست بنانا۔ الفِهْرِس و الفِهْرِسْت جمع فَهَارِس: فہرست کتب (catalogue)۔ کتاب کے شروع یا آخر میں فہرست مضامین (فارسی لفظ)۔

○ فَهْرَسَ فَهْرَسَةً کتابًا: کتاب کا اشاریہ مرتب کرنا۔ فِهْرِس و فِهْرِست جمع فَهَارِس: فہرست مضامین، اشاریہ فہرست کتب، فہرست۔

فهص: فَهَصَ - فَهْصًاهُ: کو توڑنا، کچلنا۔

فهق: افَهَقَ - فَهْقًا الرجُلَ: کی گردن کی جڑ کی ہڈی پر مارنا۔ الفَهْقَة جمع فِهَاق (ع ا): گردن کی جڑ کی ہڈی جو کہ اول الفقار کہلاتی ہے۔

۲ فَهِقَ - فَهْقًا و فَهَقًا الإناءُ: برتن کا بھر کر چھلکنا۔ أَفْهَقَ الاناءَ: برتن کو بھرنا۔ تَفَهَّقَ و انفهَقَ الحوض بالماء: تالاب کے پانی کا چھلکنا۔ الفَاهِقَة: وہ زخم جس سے خون جاری ہو۔ بِئْرٌ مِفْهَاق: بہت پانی والا کنواں۔

۳ انْفَهَقَ البرقُ وغیرہ: آسمانی بجلی وغیرہ کا پھیل جانا۔ تَفَهَّقَ و انْفَهَقَ البرقُ وغیرُہُ: آسمانی بجلی وغیرہ کا پھیل جانا۔ المُنْفَهِق: کشادہ۔

فهم: فَهِمَ - فَهْمًا و فَهَمًا و فَهَامَةً و فِهَامَةً و فَهَامِیَةً الامرَ او المعنی: کسی امر یا معنی کا جاننا، سمجھنا، ادراک کرنا۔ فَهَّمَ و أَفْهَمَ ہ الامرَ: کو کوئی کام یا بات سمجھا دینا۔ تَفَهَّمَ الکلامَ: کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا۔ تَفَاهَمَ القومُ: بعض کا بعض سے سمجھنا۔ اِسْتَفْهَمَ ہُ الامرَ: کو بات سمجھانے کے لئے کہنا، سے بات دریافت کرنا۔ الفَهْم (مص): کسی چیز کا تصور، سمجھ، ادراک۔ الفَهِم: جلدی سمجھنے والا، سمجھدار۔ الفَهَّامَة: بہت سمجھنے والا (تاء مبالغہ کے لئے ہے)۔ الفَهِیم جمع فُهَمَاء: سمجھدار۔

○ فَهِمَ - فَهْمًا و فَهَمًا ہ: کو سمجھنا، کا ادراک کرنا، کو ذہن میں لانا، کو پوری طرح سمجھ لینا، کو ذہن نشین کرنا، پر دھیان کرنا، غور کرنا، توجہ کرنا۔ — ہ من: سے کچھ سننا، سے کچھ معلوم کرنا، سے کے بارے میں جاننا، مطلع ہونا۔ فَهِمَ عنه: کو سمجھنا، سمجھنا کہ وہ کیا کہتا ہے یا اس کا کیا مطلب ہے۔ یُفْهَم أن: کہا جاتا ہے کہ، خبر یہ ہے کہ، ہم سمجھتے ہیں کہ۔ فَهَّمَ ہ ہ: کو کچھ سمجھانا یا دکھانا، کو کچھ سکھلانا، کو یقین دلانا کہ، کو خیال دلانا کہ۔ أَفْهَمَ بمعنی فَهَّمَ۔ تَفَهَّمَ ہ: کو سمجھنے یا اس کا ادراک کرنے کی کوشش کرنا، کو بالتدریج سمجھنا، کی تہ تک پہنچنا، کو سمجھنا، کا ادراک کرنا۔ تَفَاهَمَ: ایک دوسرے کو سمجھنا ایک دوسرے باتیں کرنا۔ — مع علی: کے ساتھ کے بارے میں معاہدہ کرنا، سمجھوتہ کرنا۔ تَفَاهَمَ: سمجھا جانا، ادراک ہونا۔ اِفْتَهَمَ ہ: کو سمجھنا، کا ادراک کرنا۔ اِسْتَفْهَمَ ہ ہ/عن: سے کے بارے میں دریافت کرنا، کو کچھ پوچھنا یا کے بارے میں پوچھنا۔ فَهْم جمع أَفْهَام: سمجھ، ادراک، صلاحیت، قابلیت، استعدادِ مدرکہ، شعور، ادراک، دماغ، ذہن، ذہانت، عقل و فہم، فراست، نکتہ رسی، بصیرت، زیرکی، دقیقہ رسی، تیز فہمی، معرفت، گہری نظر، پرکھ، پہچان، علم واقفیت، آگاہی، اطلاع۔ فَهِم: ہوشیار، ذہین، حاضر دماغ، تیز فہم۔ فَهِیم جمع فُهَمَاء: دانشمند، صاحب بصیرت، زیرک، ہوشیار، ذی شعور، واقف کار، معاملہ فہم، مدرک، ذی حس، باخبر، آگاہ ذی ہوش، عاقل، دانا معاملہ فہم، موقع شناس، چتر، سیانا، ہوشیار، خبردار، دانشمند، تیز فہم، ذی شعور۔ فَهَّامَة: بہت سمجھدار، انتہائی ہمدرد، غم خوار۔ تَفْهِیم: تعلیم، تربیت، صحیح اور واضح سمت کا تعین، راست رخ بندی۔ تَفَهُّم: بتدریج سمجھ، سمجھ ادراک۔ تَفَاهُم: مفاہمت، باہمی سمجھوتہ، اتفاق رائے، موافقت، ہم آہنگی، خوشگوار تعلقات۔ — مع علی: کے ساتھ پر یا کے بارے میں مفاہمت، سمجھوتہ۔ — مع: کے ساتھ اتفاق اتحاد، ہم آہنگی، تصفیہ۔ سوءُ التفاهم: باہمی غلط فہمی، اختلاف، بے ہنگی، نااتفاقی، ان بن،

نزاع۔ اِستِفهام عن/علی: کے متعلق دریافت کرنا، پوچھ گچھ۔ استفهام: سوال۔ علامة الاستفهام: سوالیہ نشان۔ استفهامی: سوالیہ (گرامر)۔ مَفْهُوم: سمجھا ہوا، قابل فہم، معلوم، معروف، معنی، مفہوم، مطلب ٹھیک مفہوم۔ ــ جمع مَفَاهِیم: خیال، تصور، رائے نظریہ۔ ــالمَفْهُوم: لفظی معنی میں، لفظی طور پر، واضح غیر مبہم طور پر۔ للمفهوم ان: کہا جاتا ہے کہ، بیان کیا جاتا ہے کہ۔ سوء الفهم: غلط فہمی۔

فهو: فَهَا ـفَهْوًا عن الامر: کو بھول جانا۔ الافْهاء: بیوقوف لوگ۔

فو: فوہ دیکھو مادہ فوہ۔

فوت: ۱۔ فَاتَ ـفَوْتًا و فَوَاتًا الامرُ: گزرنا، کام کرنے کا وقت جاتا رہنا۔ ــ ہُ الامرُ: سے کام کا نہ ہونا، اور کے ہاتھ سے نکل جانا۔ ــ ہ فلانٌ فی کذا: سے کام میں آگے بڑھ جانا۔ ــ الشیءَ: سے تجاوز کرنا۔ ــ فی الشیء: میں داخل ہونا (عام زبان میں)۔ فَوَّتَ ہُ: کو داخل کرنا (عام زبان میں)۔ ــ الوردُ و نحوُہُ: گلاب وغیرہ توڑنے کا وقت گزر جانا، اور اس کی پتیوں کا بکھر جانا اور خوشبو مدھم ہو جانا (عام زبان میں)۔ أَفَاتَ إِفَاتَةً ہ الامرَ: کو معاملہ گزار دینا اور اس سے لیجانا۔ تَفَوَّتَ علیه من ماله: پر غلبہ کر کے اس کا مال لیجانا۔ اِفْتَاتَ ہُ الامرُ: معاملہ کا اس کے ہاتھ سے نکل جانا۔ ــ الکلام: نئی بات کہنا۔ الفَوَات (مص) موتُ الفَوَات: اچانک موت۔

۲۔ تَفَاوَتَ تَفَاوُتًا و تَفَاوَتًا و تَفَاوِتًا الشیئانِ: دو چیزوں میں اختلاف اور دوری کا ہونا۔ تَفَاوَتَا فی الفضل: فضل و کمال میں مختلف اور متباین ہونا۔ الفَوْتُ جمع أَفْوَات: دو انگلیوں کے درمیان کشادگی۔ کہا جاتا ہے: جعل اللّٰهُ رزقَهُ فوتَ فمِهِ: اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق ایسا بنایا ہے کہ وہ اسے دیکھتا ہے مگر اس تک پہنچتا نہیں۔

۳۔ اِفْتَاتَ علی فلانٍ فی الامر: معاملہ میں کسی پر حکم چلانا۔

۴۔ اِفْتَات برأیه: خود رائی کرنا۔ ــ بامرہ: کو دوسروں سے مشورہ کئے بغیر خود کر لینا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ یُفتَاتُ علیه: کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ الفُوَیْت: خود رائے، جو کسی سے مشورہ نہ کرے (مذکر و مؤنث)۔

۞ فَاتَ ـفَوْتًا و فَوَاتًا: مرجانا، فوت ہو جانا، جاتا رہنا، ختم ہو جانا، گزر جانا۔ ــ ہ: کے پاس سے گزرنا، سے بچ نکلنا، کو طرح دے جانا۔ ــ چپکے سے نکل جانا، کھسک جانا۔ ــ ہ: کو ترک کرنا، کو پیچھے چھوڑ دینا۔ ــ ہُ: سے پہلے کرنا، پیش بندی کرنا۔ ــ ہ ب: کے ذریعہ پر سبقت لیجانا۔ فَاتَ الوقتُ: (بہت) تاخیر ہو چکی ہے۔ فَاتَهُ أن: کے ذہن سے نکل گیا کہ، وہ کو نہ کر پایا، اس نے کو نظر انداز کر دیا، وہ کو بھول گیا، وہ کو کرنے میں ناکام ہوا، وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ اس نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ۔ لم یفته أن: وہ کو کرنے میں ناکام نہیں ہوا، اس نے کو کرنا نظر انداز نہیں کیا۔ فاتَتْهُ الفرصة: اس نے موقع گنوا دیا۔ فاتَهُ القِطارُ: وہ ٹرین نہ پکڑ سکا۔ فَوَّتَ ہ علی: کو سے بچ نکلنے دینا۔ ــ علی ہ: کو کچھ گنوا دینے یا نہ پکڑ سکنے کا باعث بننا۔ ــ ہ: کو گزرنے دینا۔ ــ ہ: کو منتقل کرنا، فروخت کرنا۔ أفَاتَ ہ ہ: کسی چیز کو کسی سے بچ نکلنے دینا۔ ــ ہ ہ: کے ہاتھ سے کچھ نکلنے دینا، کے کچھ ہاتھ نہ آنے دینا۔ تَفَاوَتَ: مختلف ہونا، غیر مشابہ ہونا۔ اِفْتَاتَ علی: قانون شکنی کرنا، کے خلاف کرنا، کو جھٹلانا، افشا کرنا، ظاہر کرنا۔ فَوْت: نجات، چھٹکارا جمع أفوات: فاصلہ، وقفہ، درمیانی فاصلہ، فصل، اختلاف، فرق۔ فَوَات: گزرنا، وقت گزرنا، وقفہ (وقت کا)۔ فَوَاتُ الأجل: مقررہ وقت کا گزرنا، مقررہ وقت کا ختم ہو جانا۔ الفوات بالمُدّة: پیرانہ سالی کے باعث برطرفی یا پنشن دے کر الگ کرنا۔ بعد فوات الوقت (الأوان): بہت تاخیر سے۔ قبل فوات الوقت (یا الأوان): زیادہ دیر ہونے سے پہلے پہلے۔ فُوَیت (مذکر و مؤنث): خود رائے اپنی رائے پر چلنے والا/والی، صرف اپنے طریقے سے کام کرنے والا/والی۔ تفویت: انتقال ملکیت، منتقلی فروخت۔ تفاوت: اختلاف، عدم تشابہ، فرق، نمایاں فرق، عدم آہنگی۔ افتیات علی: سے غداری، بغاوت، کا افشائے راز، کی خلاف ورزی۔ فائت: گزرا ہوا وقت، گزرنے والا، جلدی گزر جانے والا، دم بھر کا، چند روزہ، ناپائیدار، عارضی۔ مُتفاوِت: مختلف۔

فوج: ۱۔ فَاجَ ـفَوْجًا المسکُ: مشک کی خوشبو کا بھڑکنا، پھیلنا، مہکنا۔ أفَاجَ الرجُلُ: جلدی کرنا۔ ــ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔

۲۔ فَاجَ ـفَوْجًا النهارُ: دن کا ٹھنڈا ہونا۔ فَوَّجَ عن نفسه: اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا۔ کہا جاتا ہے: لستُ برائحٍ حتی أُفَوِّجَ: میں جب تک اپنے آپ کو ٹھنڈا نہ کر لوں، نہیں جاؤں گا۔

۳۔ اُستُفیحَ کو ہلکا سمجھا جانا، کو سنجیدگی سے نہ لیا جانا، کو کوئی اہمیت نہ دیا جانا۔

۴۔ الفَوْج جمع أفْوَاج و فُؤُوج جمع الجمع أفاوِج و أفَایِج و أفاوِیج: جماعت، گروہ، فوج کا دستہ، رسالہ۔ الفائجة: جماعت، سخت زمین یا ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان میں کشادہ جگہ۔

۞ فَوْج جمع أفْوَاج: گروہ، جمگھٹا، انبوہ شفٹ، ہجوم، فوجی دستہ، منڈلی، جتھہ، کسی خاص مہم پر بھیجا جانے والا فوجی دستہ، پارٹی، بٹالین، رجمنٹ۔ أفواجًا: انبوہ در انبوہ، گروہ در گروہ۔ تبدُّل الفوج: شفٹ کی تبدیلی

فوح: فَاحَ ـفَوْحًا و فُؤُوحًا و فَوَحانًا ت القِدرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ ــ ت الشجّةُ: زخم کا خون پھینکنا۔ ــ الزهرُ: پھول کا مہکنا۔ ــ المسکُ او الطیبُ: مشک یا خوشبو کا بھڑکنا۔ أفَاحَ الدمَ: خون گرانا، بہانا۔ ــ القِدرَ: ہانڈی کو جوش دینا۔ تَفَاوَحَ الزهرُ: پھول کا مہکنا، کی خوشبو بھڑکنا۔ فَوْحُ الحرّ: گرمی کی شدت۔

۞ فاحَ منه شذا القداسة: وہ ایک مقدس شخص مشہور ہوا۔ فَوْحة: خوشبودار ظہور، خوشبو کا سانس۔ فَوَّاح: خوشبو پھیلاتا ہوا۔

فوخ: فَاخَ ـفَوَخَانًا ت الریحُ: ہوا کا چلتے وقت آواز نکالنا۔ الرجلُ: گوز کرنا۔ ــ الزِقّ: مشک کا منہ کھول کر ہوا نکالنا۔

فود: ۱۔ فَادَ ـفَوْدًا: مرنا۔ أفَادَ إفادةً الرجُلَ: کو مارنا، ہلاک کرنا۔ المِفْوَاد: تلف کرنے والا۔

۲۔ فَادَ ـفَوْدًا المالُ لفلان: مال فلاں کے قبضہ میں رہنا۔ اس سے الفائدہ اسم ہے۔ أفَادَ إفادةً فلانٌ المالَ: مال جمع کرنا، کمانا۔ ــ فلانًا مالًا او عِلمًا: کو مال یا علم عطا کرنا، کو مال یا علم کے ذریعے فائدہ پہنچانا۔ اِستَفَادَہُ: کو حاصل کرنا۔

۳۔ فَادَ ـفَوْدًا الشیءَ بالشیءِ: چیز کو چیز میں ملانا۔

۴۔ تَفَوَّدَ الوعلُ فوق الجبل: پہاڑی بکری کا پہاڑ پر چڑھنا۔

۵۔ الفَوْد جمع أفْوَاد (ع ا): کنپٹی، کنپٹی کے بال۔ (کہا جاتا ہے: بدا الشیبُ بِفَودَیه: اسکی دونوں کنپٹیاں سفید ہو گئیں)، بڑا تھیلا، گون، فوج، کنارہ۔ فَوْدُ الخباء او الوادی: خیمہ یا وادی کا کنارہ۔

۶۔ الفَوْدَج: ہودج، دلہن کی پالکی۔

فور: فَارَ ـفَوْرًا و فَوَرَانًا و فُؤُورًا ت القِدرُ: ہانڈی کا جوش کھانا اور ابلنا۔ ــ الماءُ: پانی کا زمین سے پھوٹ نکلنا اور بہنا۔ ــ العِرقُ: رگ کا پھڑکنا۔ ــ فَوَارًا و فَوَرَانًا المسکُ: خوشبو کا بھڑکنا۔ ــ فَوْرًا و أفَارَ القِدرَ: ہانڈی کو جوش دینا۔ الفائر

(فا): بھڑکے ہوئے غصہ والا۔ فـار فـائِرُہُ: اس کا غصہ بھڑک اٹھا۔ فـارۃَ الابل: اونٹوں کی کھال کے تر ہوجانے کے بعد کی بدبو۔ الـفـور (مص): بہت جلدی۔کہاجاتا ہے: رجع من فوْرِہ: وہ بلاتوقف بہت جلدواپس ہوا۔ فورُ کلّ شیءٍ: ہر چیز کا اول۔ الفوْرۃ من الحرّ او الغضب: گرمی یاغصہ کی شدت وتیزی۔کہاجاتا ہے: أخذتُ الشـیءَ بفوْرتـہ: میں نے چیزکواس کی ابتداء ہی میں لے لیا۔ فـوْرۃ النـہار: دن کی ابتداء۔ العشاء: عشاء کی نماز کے بعد کاوقت۔ ۔ الناس: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ ۔ الکبِد (طب): جگر کا التہاب۔ الفوارۃ: ہانڈی کا اُبال۔ الفوّار: مبالغہ کا صیغہ،بہت جوشیلا۔ الفوّارۃ فوّار کا مؤنث: پانی نکلنے کی جگہ، چشمہ (عام لوگوں کے نزدیک):فوارہ(fountain)۔ الفَـیُّور: بہت جلد غضبناک ہونے والا۔

۲۔ فارَ ـفورًا و افار المیزان: ترازو کی زبان کے اِدھر اُدھر کےلوہے بنانا۔ فِیاران: ترازو کی زبان کے اِدھر اُدھر کےلوہے۔

۳۔ الفار واحد فارۃ (ج): چوہا،جدیدادباء کی ضرب المثل ہے: حَبِلَ الجبلُ فولدَ فارۃً: (لفظی ترجمہ: پہاڑ کوحمل ہوا تو اس نے چوہیا جنی) کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ الفُـوُر مُفـرد فائر (ج): ہرنیاں۔کہاجاتا ہے: لا افعلہ ما لألاتِ الفُوُر: جب تک ہرنیاں اپنی دم ہلاتی رہیں گی، میں یہ کام نہیں کروں گا،مراد کبھی نہیں کروں گا۔

○ فـارَ ـفَوراً و فَوَراناً: ابلنا،سنسنانا،ابلنے کی قریب ہونا، بلبلے اڑانا ۔ بلبلے ابھرنا یا نکلنا،غرغر بہنا، غصے یا جوش میں ہونا، بلبلے چھوڑنا،آگ بھبوکا ہونا،زور سے نکلنا،تیزی سے نکلنا(پانی کا زمین سے)۔ فوّرَ ہ:کو اُبالنا،برانگیختہ کرنا،جوش میں لانا،بھڑکانا۔ افارَ ہ:کو اُبالنا۔ فَـوُر:ابلنا،سنسنانا، بلبلے ابھرنا،نکلنا یا اڑانا، آپے سے باہر ہونا،بھپکا،جوش،ابال۔ فـوراً:فوراً، فی الفور،اسی وقت،اسی دم،بلاتاخیر۔ مِـن الـفـور، من فـورہ من فـورھا یا علی الفور: فوراً،فی الفور،اسی وقت،اسی دم،بلاتاخیر۔ فـوْرِی:فوری، بلاتاخیر۔ فَوْرۃ: بھبوکا،طیش،ہٹ پڑنا،بدمزاجی کا غلبہ۔ فـوّار: ابلتاہوا،ابلنے والا،پرجوش،آپے سے باہر ہوجانے والا؛جوش یا ابال کی حالت میں،سنسناتا، سائیں سائیں کرنا، بلبلے اٹھاتا،جھاگ دار،کف دار،تیز مزاج،جوشیلا،زودرنج،جلد طیش میں آجانے والا۔ فَوَران: ابلنا،سنسنانا، بلبلے اڑانا یا نکلنا،آپے سے باہر ہونا،بھپکا،جوش،ابال،بھڑک اٹھنا،غصہ میں لال پیلا ہونا،آگ بگولا ہونا،ہیجان۔ فَـائِـرۃ: اودھم،دھما چوکڑی، ہنگامہ، گڑبڑ، شور و غوغا، ہلچل، اضطراب، جوش۔

فوز: ا۔ فازَ ـفوزاً بالامر: میں کامیاب ہونا۔ ــ من المکروہ: ناپسندیدہ چیز سے نجات پانا۔ فوّزَ تفویزاً الـطریقُ: ظاہر ہونا،نظر آنا۔ أفـازَ فُـلانًا بکذا: کو میں کامیاب کرنا۔ الـمَفازۃ جـمـع مَفَازات و مفاوز: کامیابی کی جگہ یا سبب،نجات کی جگہ یا سبب۔

۲۔ فـازَ ـفـوزاً الـرجُلُ: ہلاک ہونا،مرجانا۔ فوّزَ تفویزاً: ایک زمین سے دوسری زمین میں جانا۔ ــ الرجُلُ: گزرنا،مرنا۔ ۔ الراعی بابلہ: چرواہے کا اپنے اونٹوں کے ساتھ جنگل طے کرنا۔ تَـفـوّزَ: ایک زمین سے نکل کردوسری میں جانا۔ الفَازۃ: دوکھمبوں والا سائبان۔کہاجاتا ہے: ضربَ الفازۃَ بالمفَازۃ: اس نے بیابان میں خیمہ لگایا۔ المفَازۃ حمع مَفَازات و مَـفَاوِز: ہلاکت کی جگہ یا سبب،وہ بیابان جس میں پانی نہ ہو۔

○ فَـازَ ـفَوزًا: کامیاب ہونا،فتح یاب ہونا،فتح حاصل کرنا۔ ــ ب: کوحاصل کرنا،کوجیتنا،کوانجام دینا،بجا لانا،پورا کرنا،میں کامیاب ہونا،فائزالمرام ہونا،کولینا، پانا۔ ۔علی ب: سے(دشمن)کوشکست دینا،کوسے/ کے ذریعے مات دینا۔ فـاز من: سے بچ نکلنا،سے نجات یاچھٹکارا حاصل کرنا۔ ما فـاز بطائلٍ: ناکام رہنا،کچھ نہ کرسکنا۔ فَوّزَ: بیابان عبور کرنا،بیابان میں سفرکرنا۔ فَوز: کامیابی،فتح،حصول،تکمیل،فائزالمرامی، نجات۔ مَفَازۃ جمع مفَازات و مَفَاوِز: بیابان، ریگستان۔ فَائِز:کامیاب،فاتح،جیتنے والا مونث فائزہ۔

○ فوسفات: فاسفیٹ(phosphate)۔

فـوش: الفُوُشِیَـا (ن): ایک نباتات،جس کے پھول خوبصورت اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔

فوض: ا۔ فـوّضَ تفْوِیضًا الیہ الامرَ: کےکوئی معاملہ سپرد کرنا،کواختیار سونپ دینا،کو میں حاکم بنا دینا۔ الـمُفَوّض: بااختیار کارکن،کارندہ،ڈپٹی،مختار،کمشنر حاکم،اعلی۔ المُفوّض السامی: ہائی کمشنر۔ وَزِیر مُفَوّض مدارالہام Minister plenipotentiary مفوّضُ الشرطہ: پولیس کمشنر۔ المُفوّضیۃ:کمشنر کا دفتر یا منصب، چھوٹے درجے کا سفارت خانہ۔ الـمـفوّضیۃ العلیـا: ہائی کمشنر کا دفتر۔ مُستشار المفوّضِیۃ: چھوٹے درجے کے سفارت خانہ کا مشیر۔

۲۔ فوّض تفویضًا المرأۃ: عورت کی مہر کے بغیر شادی کرنا۔

۳۔ فـاوَضَ مُـفَاوَضَۃً ہُ فی الامر: میں برابر ہونا،میں برابر کا شریک ہونا،پرسے بات چیت کرنا،مذاکرات کرنا۔ تَـفَاوَضَ القومُ فی کذا: میں بعض کا بعض کے ساتھ شریک ہونا، میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ ــ الشـریکان فی المال: مال میں برابر کا شریک ہونا۔ تَـفَـاوَضُـوا فی الـحدیث: بات چیت شروع کرنا۔کہاجاتا ہے: قـومٌ فَـوْضَـی: ایسے لوگ جو برابر کے درجے کے ہوں اوران کا کوئی سربراہ نہ ہو۔ امرُھُمْ فَوْضَی بینھم و فَوْضُوضَی و فَوْضُوضاء: یہ لوگ ایسے شریک ہیں کہ ان میں سے ہرایک شخص دوسرے کے معاملہ میں تصرف کا حق رکھتا ہے۔ اموالُھم فَوْضوضَی بینھم و فَوْضُوضَی و فَوْضُوضَاء: وہ سب مال میں برابر کے شریک ہیں کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں۔ الفَوْضَوِیّ: نراجی۔ الـفَـوْضَـوِیَّۃ: لاحکومیت،فوضویت،بدنظمی،نراج، طوائف الملوکی (anarchy)۔ الـمُـفَـاوَضَۃ (مص): کہاجاتا ہے: شرکۃٌ مُفَاوَضَۃٌ و شرکۃُ مُـفَاوَضۃٍ: ایسی شرکت جس میں شریک مال،تصرف اور دین (قرض) کے لحاظ سے برابر ہوں۔اس کے مقابلہ میں شرکۃ العِنان ہے۔ مُـفَاوَضۃ العلماءِ: علمی مسائل میں مذاکرہ اور مباحثہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی تحقیق معلوم ہوجائے۔

○ فَـاشِی: فسطائی،فاشستی(fascist)۔ فُوسْفُور: فاسفورس(phosphorus)۔

○ فَـوّضَ الی/ل ہ: کے کچھ سپرد کرنا،کوکی تحویل میں دینا،کوکے حوالے کرنا،کوکا مختار بنانا۔ ــ ل/الی: کو اختیار دینا،مختار کرنا،مجاز کرنا،کونائب یا نمائندہ بنا کر بھیجنا،کومکمل اختیار دینا۔ فَـاوَضَ ہ: کی گفت وشنید کرنا۔ ۔فی ہ/مع: سے کے بارے میں مشورہ کرنا، صلاح مشورہ کرنا، سے کے بارے میں بات چیت کرنا،مذاکرات کرنا۔ تَفَاوَض فی: پر،کے بارے میں ایک دوسرے سے مذاکرات کرنا، بات چیت کرنا۔ ۔فی: کی گفت وشنید کرنا۔ ــ فی مع: کے بارے میں کے ساتھ بات چیت کرنا،مذاکرات کرنا۔ فَـوضَی: گڑبڑ،خرابی،ابتری،افراتفری،پراگندگی، الجھن،سخت بدنظمی،نراج،فوضویت۔ تَـفْـوِیض: سپرد کرنا، حوالہ کرنا، اختیار دینا، اختیار تفویض کرنا، اختیار، اختیارات تفویض کرنے والا فرمان (رائے دہندگان کی نمائندوں کو) ہدایت،انتدابی اختیار،مختار کا ذریعہ،مختارنامہ،مختاری۔ تفْوِیض مطلق او تام:

عام مختاری غیر محدود اختیار۔ سو تبقة التفويض: مختار نامہ۔ مُفاوَضة جمع مُفاوَضات: تذکرہ، بات چیت، گفتگو، شراکت فتح یاب۔ المفاوضات: بات چیت یا مذاکرات کا آغاز کرنا۔

فوط: فَوَّطَهُ: کو پٹکا یا پیٹی پہنانا۔ الفُوطَة جمع فُوَط: پٹکا یا پیٹی جسے خدام، چپراسی یا اردلی وغیرہ پہنتے ہیں، لفظ سندھی یا تر کی زبان کا بتایا جاتا ہے۔ عند العامة: (عوام کے نزدیک) دستی رومال جس سے ہاتھ پونچھے جائیں۔ اسے منشفة بھی کہتے ہیں۔ ناک صاف کرنے کا رومال۔

☜ فُوطة جمع فُوَط: پیش بند (apron)، بچے کے سینہ پر لگایا ہوا فالتو کپڑا، (pin afore)، دستپاک (napkin)، کھانے کی میز کا رومال (serviette)، تولیہ صافی (towel)۔

فوظ: فَاظَ ـُ فَوْظًا و فَوَاظًا: مرنا۔ کہا جاتا ہے حَانَ فَوْظُهُ: اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔

فوع: فَاعَ ـُ فَوْعًا الحشراتُ: کیڑے مکوڑوں کا کثرت سے نکل آنا (عوام کی زبان میں)۔ تَفَوَّعَ المريضُ: بیمار کا قے کرنا (عوام کی زبان میں)۔ الفَوْعَة من الطيب: خوشبو کی مہک۔ من السُّمّ: زہر کی تیزی۔ من الشم: سونگھنے کی تیز حس۔ من الشباب: جوانی کی ابتداء، آغاز جوانی۔

فوغ: افَاغَ ـُ فَوْغًا الطيبُ: خوشبو بھڑکنا، مہکنا۔ الفَوْغَة من الطيب: خوشبو کی مہک۔ الفَائِغَة: تیز خوشبو جو ناک کو بھر دے۔ الفَوَغ: منہ کی موٹائی۔ الأَفْوَغ: موٹے منہ والا۔ کہا جاتا ہے فَمٌ أَفْوَغ: موٹا منہ، بڑا منہ۔ رجُلٌ أَفْوَغ: بڑے منہ والا، موٹے منہ والا۔

فوف: افَافَ ـُ فَوْفًا: انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے ناخنوں کو ملا کر سائل کو اشارہ کرنا کہ تجھے اتنا سا بھی نہ ملے گا، یعنی تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ الفُوف۔ واحد فُوفَة جمع أَفْواف: غلہ کے دانوں کے اوپر کا چھلکا۔ ۔ و الفُوف واحد فُوفَة جمع أَفْوَاف: جوانوں کے ناخنوں کی سفیدی، روئی کے ٹکڑے۔ کہا جاتا ہے: ما ذاقَ فُوفًا و ما أغنى فُوفًا: اس نے کچھ نہیں چکھا، اس نے ذرا فائدہ نہ دیا۔ ثوبُ أَفْوَافٍ و ثوبٌ مُفَوَّف: باریک کپڑا، وہ کپڑا جس میں لمبے رخ سفید دھاریاں ہوں۔

۲ الفُوف و الفَوف واحد فُوفَة و فَوفَة جمع أَفْوَاف: گائے بیل کا نشانہ، یمن کے دھاریدار کپڑوں کی ایک قسم۔

۳ الفُوفَل و الفَوفَل (ن): ایک خوشبودار پھل۔

☜ فُوف: جھلی، پوست، جالا۔ فُوفَة: جھلی، پوست، جالا۔ ثوبٌ مُفَوَّف: سفید دھاریوں والا کپڑا۔

فوق: افَاقَ ـُ فَوْقًا و فَوَاقًا الشيءَ: سے بلند ہونا۔ اصحابَهُ بالفضل او العلم: اپنے ہمعصروں سے فضیلت یا علم میں بڑھ جانا۔ فَوَّقَ ہ علی قومه: کو اپنی قوم پر فضیلت دینا۔ تفوَّق علی قومه: اپنی قوم پر برتری دکھانا۔ الفَائِق (ف) جمع فائِقون و فُوَقَة: اپنی نوع میں عمدہ اور خالص۔ فَوق: اوپر (تحت کا الٹ) ظرف مکان ہے، کبھی زمانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اقمتُ فوق شهر: میں نے ایک مہینہ سے زیادہ قیام کیا، کبھی زیادتی اور فضل پر دلالت کرتا ہے جیسے العشرة فوق التسعة: (دس نو سے بڑا ہے) هذا فوق ذلك: یہ اُس سے بہتر ہے، کبھی بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔ جیسے: اذا ذُكِرتَ فكلُّ فوقٍ دُونٌ: (جب تمہارا ذکر کیا جائے تو ہر اونچائی نا کافی ہے۔) الفَوقَانی: التَّحْتَانِي کا الٹ، اوپر والا۔ الفِيقَة الضحى جمع فِيَق و فِيَق و فِيقات و أفْوَاق و افاوِيق: چاشت کی ابتداء، کہا جاتا ہے ارْضَعَني افاوِيقَ بِرِّهِ: اس نے میرے ساتھ بہترین احسانات کئے۔ شاعِرٌ مُفِيق: اونچے درجے کا شاعر۔

۲ فَاقَ ـُ فُوَاقًا: ہچکی آنا۔ فُوَاقًا و فُؤُوقًا الرجُلُ: کی جان نکلنے لگنا یا مرجانا۔ انفاقَ انفِيَاقًا الجملُ: اونٹ کا لاغر ہونا، ہلاک ہونا۔ الفُواق جمع أفْوِقة و آفِقَة و جج أفْوقات: جان کنی کے وقت کی ہچکی۔ (طب) نزع کا غرغرہ، عوام اسے الحازوقة کہتے ہیں۔

۳ فَاقَ ـُ فَوْقًا السهمَ: سوفار تیر کو توڑنا۔ الشيءَ: چیز کو توڑنا۔ يفاق و فوق يفوق فاقًا و فوقًا و فَوَقًا السهمُ: سوفار میں کجی یا شکستگی پیدا ہونا۔ فوّق السهمَ: تیر میں سوفار لگانا۔ أفاق إفاقَةً و أفْوَقَ إفْوَاقًا و اوْفَقَ ايفاقًا السهمَ: تیز پھینکنے کے لئے وتر قوس پر سوفار رکھنا۔ انفاقَ انفِيَاقًا السهمُ: تیر کا سوفار ٹوٹ جانا۔ الفُوق جمع فُوَق و أفْوَاق: سوفار، تیر کا دندانہ، دانتا۔ کہا جاتا ہے: لهُ من كذا سهمٌ ذو فُوق: اس کے لئے اس میں پورا حصہ ہے۔ هو أعلاهم فُوقًا: وہ ان میں سب سے زیادہ حصے والا ہے۔ الفَوَق: سوفار کی کجی اور شکستگی۔ الفُوَاق (مص): کہا جاتا ہے له من كذا سهمٌ ذو فُوَاق: اس کے لئے اس میں پورا حصہ ہے۔ الفُوقة: جمع فُوَق و فُقًا: تیر کا دندانہ، دانتا۔ الفائِق (ع ا): سر اور گردن کے جوڑ کی جگہ۔ السهمُ الأَفْوَق: تیر جس کا سوفار ٹوٹ گیا ہو۔

۴ فَوَّقَ الفصيل: بچہ کو رُک رُک کر دودھ پلانا۔ افَاقَ إفَاقَةً الحالبُ: دو دفعہ کے دودھ دوہنے کے بیچ میں ٹھہر جانا۔ ۔ ت الناقةُ: اونٹنی کے تھن میں دودھ جمع ہونا صفت مُفِيق و مُفِيقَة جمع مَفَاوِيق و فُيُق۔ تفَوَّقَ الشرابَ: کو تھوڑا تھوڑا کر کے پینا۔ ۔ ت الناقةَ: اونٹنی کو ایک مرتبہ دوہنے کے بعد بچہ کو دودھ میں لگا کر دوبارہ دوہنا۔ ۔ الفصيلُ: بچہ کا گھونٹ گھونٹ دودھ پینا۔ ۔ مالَهُ: مال کو ٹھہر ٹھہر کر خرچ کرنا۔ إستَفَاقَ الناقةَ: اونٹنی کو مہلت دے کر دوہنا۔ الفِيقَة جمع فِيَق و فِيَق و فِيقات و أفْوَاق و افاوِيق: وہ دودھ جو دو دفعہ دوہنے کے وقت درمیان تھن میں جمع ہو جائے۔ الأفاوِيق: وہ پانی جو بادل میں جمع ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا برسے۔ الفَوَاق و الفُوَاق (دونوں مصدر ہیں): دو دفعہ دوہنے کے درمیان کا وقت، دوہنے والے کے ہاتھ سے تھنوں کو دبانے اور ہاتھ کھولنے کے درمیان کا وقت، اور اسی سے ان کا قول ہے امهِلْنِي قدرَ فواق حالب: مجھے ذرا سی مہلت دو۔ طعامٌ مُفَوَّق: وہ کھانا جو تھوڑا تھوڑا لیا جائے۔

۵ افَاقَ إفَاقَةً من مرضه: بیماری سے صحت یاب ہونا۔ ۔ السُّكرانُ من سُكرِهِ: مدہوش کا نشہ سے ہوش میں آنا۔ ۔ من النوم: نیند سے بیدار ہونا۔ ۔ المجنونُ من جُنونه: دیوانگی کے بعد دیوانے کی عقل کا لوٹ آنا۔ ۔ الزمانُ: زمانہ کا تنگی کے بعد فراخی لانا۔ ۔ عنه النعاسُ: نیند کا اچٹ جانا۔ ۔ من غفلته: چوکنا ہونا۔ إستفاقَ الرجُلُ من نومه او مرضه او غفلته: نیند سے بیدار ہونا، مرض سے صحت یاب ہونا، غفلت سے ہوشیار ہونا۔ الفُوَاق: أفَاقَ کا اسم۔ إستَفَاقَ العليلُ: بیمار کا مرض سے صحت یاب ہونا، رو بہ صحت ہونا۔

۶ إفتَاقَ الرجُلُ: محتاج ہونا، فقیر ہونا۔ المُفَاق: صحراء۔ الفَاقَة: حاجت، فقر، مفلسی، محتاجی۔

۷ المَفَاق: کھانے سے بھرا ہوا بڑا پیالہ، کنگھی۔ المُفُوق: زبان کا کنارہ، پہلا راستہ، کہا جاتا ہے هنا ارتد علی فُوقِهِ: وہ گیا اور لوٹا نہیں۔ المفِيقَة: جمع فِيَق و فِيَق و فِيقات و أفْوَاق و افاوِيق من الليل: رات کا اکثر حصہ۔

☜ فَاقَ ـُ فَوْقًا و فَوَاقَة ۵/۸: پر سبقت لیجانا، بازی لیجانا۔

شرف رکھنا، سے اونچا ہونا، سے کہیں بلند ہونا۔ ہ: سے برتر ہونا، بڑھیا اور بہتر ہونا۔ ہ: سے ماوراء ہونا، بلند تر ہونا، اعلیٰ ہونا، سے زیادہ ہونا۔: زیادہ اہم ہونا، زیادہ وزنی ہونا، زیادہ بھاری ہونا۔ علی: کو یاد کرنا۔فَاقَ بنفسه فُؤُوقًا و فُوَاقًا: مرجانا، دم دے دینا۔فَوَّقَ ہ الی: (ہتھیار) کا رخ کی طرف کرنا۔ ہ إلی: کا رخ کی طرف پھیرنا۔ ہ: کو جگانا، بیدار کرنا، ہوش میں لانا، کو یاد دلانا۔ ہ: (سر سے) نشہ اتارنا۔أَفَاقَ من: سے صحت پانا، سے صحت یا طاقت بحال ہونا، سے افاقہ یابی کی حالت میں ہونا، روبہ صحت ہونا۔: دوبارہ صحت یاب ہونا، بیدار ہونا۔ ۔من النوم: نیند سے بیدار ہونا۔من (نشہ، بیہوشی سے) ہوش میں آنا۔ ہ من: کو سے جگانا، بیدار کرنا، جوش میں لانا۔تَفَوَّقَ علی: سے برتر ہونا، سے بڑھ جانا، بازی لے جانا، پر سبقت لیجانا، سے سبقت لیجانا، سے بڑھنا، یا اونچا ہونا، سے کہیں بلند ہونا۔ ب: میں، کے ساتھ عمدہ کام کرنا، میں، کے ساتھ نمایاں مہارت کا مظاہرہ کرنا۔ فی: (کسی نصاب تعلیم میں) امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کرنا۔ إِسْتَفَاقَ من: سے صحت یاب ہونا، روبہ صحت ہونا۔ ۔من النوم: نیند سے بیدار ہونا۔: بیدار ہونا۔ من: (بیہوشی، نشہ سے) ہوش میں آنا۔فَوْقَ: (کے) اوپر، پر، کی چوٹی پر، سے ماوراء، سے زیادہ۔فَوْقَ الحدِّ: لامحدود، بے حد، متناہی، حد سے زیادہ فزوں از حد، بہت زیادہ، مبالغہ آمیز، مبالغہ آمیزانہ۔فوقَ ذلك: مزید برآں، کے علاوہ، سے ماوراء۔فوقَ البنفسجي: ماورائے بنفشجی (ultra violet)۔فوقَ الطبيعة: خارق عادت، مافوق الفطرت (supernaltural)۔ فوق العادةِ: غیر معمولی؛ خصوصی یا ہنگامی (اجلاس وغیرہ)۔فوقَ أنَّه: اس حقیقت کے علاوہ کہ یہ۔ فَمَافَوق: اور اس سے اوپر اور اس سے زیادہ۔مِن فَوقِهِ: اس پر، اس کے اوپر سے۔فَوقَانِي: اونچا۔ فَاقَة: غربت، احتیاج، ضرورت مندی، مفلسی محتاجی۔ فُوَاق: ہچکیاں، دم واپسیں (موت کے وقت)۔أَفَاوِيق (واحد فِيقَة): دو بار دوہنے کے درمیان تھن میں جمع ہونے والا دودھ۔مجازاً: عطیے، تحفے، بخششیں، مہربانیاں، دان، خیراتیں۔أَرْضَعَني أَفَاوِيقَ بِرِّه: اس نے مجھ پر عنایات کی بوچھاڑ کی یا بھرمار کی۔ تَفَوُّق: برتری، زیادتی، اہمیت، تسلط، فوقیت، بالادستی، اوسط سے بڑھ کر کام، صلاحیت، ذہانت، طباعی، جوہر۔فَائِق: برتر، بہت عمدہ، انتہائی خوش نما، درجہ اول کا، نمایاں، غیر معمولی، جاذب توجہ، بہترین، ممتاز، حد سے متجاوز، بیدار، چوکنا، چوکس، ہوشیار۔مُفِيق: بیدار، جاگتا ہوا، چوکنا، چوکس ہوشیار۔مُتَفَوِّق: برتر، بہت عمدہ، اول درجے کا، انتہائی، نمایاں، غیر معمولی، جاذب توجہ، فاتح۔مُسْتَفِيق: بیدار، جاگتا ہوا، چوکنا، چوکس، ہوشیار۔

فول: الفُول (ن): لوبیا۔الفَوَّال: لوبیا بیچنے والا، لوبیا پکانے والا۔

فُول: (اسم جنس واحد فُولَة) جمع فُولَات: باقلہ، لوبیا، پھلی۔فول مُدَمَّس: تیل میں پکائی ہوئی پھلیاں (مصر کا قومی کھانا)۔فُول سُودانی: مونگ پھلی، مونگ پھلیاں۔فَوَّال: لوبیا یا مونگ پھلی بیچنے والا۔

فوم: الفَوَّمَ: روٹی پکانا۔الفُوم جمع فُومَان (ز): گیہوں، روٹی، ہر وہ غلہ جس کی روٹی پکائی جائے۔ الفُومَة جمع فُوَم: فوم کا واحد، خوشہ۔

۲الفُوم جمع فُومان (ن): لہسن، مٹر۔الفُومَة جمع فُوَم: چٹکی یعنی اتنی مقدار جو دو انگلیوں سے اٹھائی جائے۔ الفُومِي الأَسْوَد: ایک سبزی۔الفامِيّ: سبزی فروش، کنجڑا۔

فونوغراف جمع فونوغرافات: گراموفون (gramophone)۔

فون: الفَاوَانِيا او عودُ الصليب (ن): ایک پھولدار پودا۔

فوه: افَاهَ۔فَوْهًا بكذا: (کچھ) کہنا۔فَوِهَ۔فَوَهًا: فراخ دہن ہونا۔فَوَّهَهُ: کو فراخ دہن بنانا۔فَاوَهَ مُفَاوَهَةً و فَاهَى مُفَاهَاةً فلانًا: سے گفتگو کرنا، فخر کی باتیں کرنا۔تَفَوَّهَ بكذا: کچھ کہنا۔تفوّه المكانَ: جگہ کی فراخی میں داخل ہونا۔تَفَاوَهَ القومُ بكذا: کے بارے میں آپس میں گفتگو کرنا۔إسْتَفَاهَ استِفَاهًا و استِفَاهَةً: کسی کا کمی کے بعد کھانا پینا بڑھ جانا۔الفُوه و الفاه و الفيه جمع أفواه: منہ۔فُو: اسمائے خمسہ مکبرہ سے ہے۔ اس کا اعراب حالت رفعی میں واؤ، حالت نصبی میں الف اور حالت جری میں یاء کے ساتھ آتا ہے، بشرطیکہ مفرد مکبر ہو اور یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو۔ چنانچہ اس کا استعمال بحسب عوامل مختلفہ فُوهُ و فاهُ و فِيهِ یعنی فَمُهُ و فَمَهُ و فَمِهِ ہے۔سقط لِفِيه: وہ منہ کے بل گر پڑا۔كَلَّمْتُه فاهُ إلى فِيَّ: میں نے اس سے روبرو گفتگو کی اس میں فاهُ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ مبتدا قرار دے کر رفع بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ پورے جملہ کو حال قرار دیا جائے اور كَلَّمْتُهُ فوهُ إلى فِيّ کہا جائے۔الفَوَه: منہ کی کشادگی، دانتوں کا لمبا ہونا اور ہونٹوں سے باہر نکلنا۔ الفُوَيْه: فوه کی تصغیر، چھوٹا منہ۔الفُوهَة جمع فُوهَات من الوادی و الطريق و جبل النار: وادی، راستہ یا آتش فشاں پہاڑ کا دہانہ۔الفَوْهَة: فاه کا اسم مرہ، منہ۔الفُوَّهَة: گفتگو، غیبت۔ کہا جاتا ہے فلانٌ يخاف فُوَّهَةَ الناس: فلاں شخص لوگوں کی غیبت سے ڈرتا ہے۔انه لذو فُوَّهةٍ: وہ سخت کلام اور تیز زبان ہے۔ان ردَّ الفُوَّهةِ لشديد: منہ سے نکلی ہوئی بات لوٹانا دشوار ہے۔ جمع فُوَّهات و أفواه و فَوَائه: چیز کا اول۔ من الطريق و الوادی و جبل النار: راستہ، وادی اور آتش فشاں پہاڑ کا دہانہ۔ الفُوَّهَة التنفُّسِيَّة: کیڑے مکوڑوں کے سانس لینے کے راستے۔الفَيِّه مؤنث فَيِّهَة: بہت بولنے والا، بلیغ، بہت کھانے والا آدمی و جانور۔الأَفْوَه مؤنث فَوْهَاء جمع فُوْه: چوڑے منہ والا۔طعنة فَوْهاء: نیزے کا چوڑا زخم۔المُفَوَّه: بڑا بولنے والا، بلیغ۔ کہا جاتا ہے خطيبٌ مُفَوَّهٌ: عمدہ خطبہ دینے والا۔

۲الفُوَّةُ و الفُوَّة (ن): باریک لمبی اور سرخ رنگ کے ایک درخت کی جڑیں جو رنگائی کے کام آتی ہیں اور بعض امراض کے علاج میں بھی مستعمل ہیں۔ اسے عروق الصباغین بھی کہا جاتا ہے۔الأَفْوَاه جمع أفَاوِيه واحد فُوه: مصالحے، خوشبو کی ڈبیاں، قسمیں۔المُفَوَّه: فوۃ سے رنگا ہوا۔شرابٌ مُفَوَّهٌ: خوشبو ملی ہوئی شراب۔المُفَوَّى: فُوَّة سے رنگا ہوا۔

فوا: الفُو (ن): ایک گھاس جس سے مرض وجع الجنب اور داء الثعلب کا علاج کیا جاتا ہے۔الفُوَّة: اس کا ذکر فو میں آچکا ہے۔أرضٌ مُفْوَاةٌ: وہ زمین جس میں فُوَّة گھاس بہت ہو۔

في: حرف جر اور معانی ذیل پر دلالت کرتا ہے۔ ظرفیت: جیسے الخمر في الزِق: شراب مشکیزے میں ہے۔ مصاحبت: جیسے جاء في القوم و قمتُ في شروق الشمس: وہ قوم کے ساتھ آیا اور میں سورج طلوع ہونے کے ساتھ اٹھا۔ تعلیل: جیسے قُتِلَ في ذنبِهِ: وہ اپنے جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ مقایسہ: جیسے علمي في بحره الاقطرة: میرا علم اس کے علم کے سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہے۔ استعلاء: جیسے لأُصَلِّبَنَّكُمْ في جلوع النخل: میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، نیز باء إلى اور من کا مرادف اور ہم معنی بھی ہے: جیسے (بمعنی ب): انت بصير في عملك: تم اپنے کام سے واقف ہو۔ (بمعنی الى): ردّ يده في

حبیبہ: اس نے اپنا ہاتھ دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ (بمعنی من): جیسے: مضت علیّ ثلاثة أشهر فی ثلاث سنین: مجھ پر تین سال کے کوئی تین ماہ گذرے (یعنی بصیر فی عملك بصیر بعملك. فی جیبه إلی جیبه اور فی ثلاث سنین: من نحو ثلاث سنین کے معنی میں ہے۔)

○ فی: میں، پر، (کے) نزدیک، (کے) پاس، (کے) اندر اندر، (کے) دوران، کے درمیان میں، (کے) ساتھ، (کی) معیت میں، (کے) ہمراہ، (کے) بارے میں، (کے) متعلق، (پر) پر مشتمل، کی خاطر، کی طرف سے، کی وجہ سے، کے مطابق، کے تناسب سے۔ هل لك فی: کیا۔ پسند کریں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ، کیا ایسا محسوس کرتے ہیں؟ خمسة فی ثلاثة: پانچ بار تین، پانچ ضرب ۳۔ خمسة امتار فی عشرة: پانچ میٹر ضرب ۱۰ میٹر (چوڑائی اور لمبائی)۔ كذب فی كذب: جھوٹ پر جھوٹ۔ كلام فی كلام: محض لفظ ہی لفظ، بیکار گفتگو۔ نحن اقارب فی اقارب: ہمارے معاشرتی تعلقات عزیز رشتہ داروں کے سے ہیں۔ فیما مضی یا فیما مضی من الزمان: ماضی میں، پہلے زمانہ میں، پہلے۔ فیما یلی یا فیما بعد: ذیل میں، آئندہ حسب ذیل، بعد میں۔ فیما اعتقد: جیسا کہ میرا ایمان ہے، جیسا کہ میں پختہ یقین رکھتا ہوں۔ فیما بینهم: آپس میں، کے درمیان میں۔ تبسّم فی خُبث: وہ بد باطنی سے مسکرایا۔ فیما: کے دوران میں، حالانکہ، جب۔ فیما إذا: اگر، بشرطیکہ، آیا، اس صورت میں کہ

فیأ: ا۔ فاء یفیء فیئاً: لوٹنا، واپس آنا، اسی سے آیت کریمہ ہے: حتی تفیءَ إلی امر اللّٰه: یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ ۔ الظلّ: سایہ کا ہٹ جانا۔ ۔ فیئاً و فُیُوءًا الامر: کسی بات یا امر کی طرف رجوع کرنا۔ فیّأ تفیئةً الشجرُ: درخت کا سایہ دار ہونا۔ ۔ ت الریاحُ الغصونَ: ہوا کا ٹہنیوں کو ہلانا۔ أفاءَ إفاءةً الظلّ: سایہ کا لوٹنا۔ ۔ ہ الی كذا: کو کے پاس کی طرف لوٹانا۔ تفیّأ تفیُّؤًا الظلُّ: سایہ کا پلٹنا۔ ۔ الشجرةَ و فی الشجرة: درخت سے سایہ حاصل کرنا۔ ۔ فلانٌ: سایہ تلاش کرنا۔ کہا جاتا ہے: تفیّأ بفیئه: کی پناہ لینا۔ إستفاء استفاءةً: لوٹنا، واپس آنا۔ الفیء (مص) جمع افیاء و فُیُوء: سایہ، پرندوں کی ایک ٹکڑی۔ الفیئة: اسم مرہ، رجوع، واپسی، لوٹنا۔ الفِیئة: نوع، قسم۔ کہا جاتا ہے: انه حسنُ الفِیئةِ: وہ بہتر واپسی والا ہے۔ التفیئة (مص): کہا جاتا ہے: دخل علی تفیئةِ فلان: وہ فلاں کے نقش قدم پر داخل ہوا۔ المُفاء: افاء سے اسم مفعول۔ المَفیأة و المَفیُؤة: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ آئے، سایہ دار جگہ۔

۲۔ فاءَ ۔فَیئاً الغنیمةَ: مال غنیمت کو لینا، اور غنیمت قرار دینا۔ افاءَ إفاءةً علی القوم فیئاً: ایک قوم کا مال لے کر دوسروں کو بطور غنیمت دینا۔ ۔ اللّٰهُ علیه مال القوم: اللہ کا کسی کو قوم کا مال غنیمت دلانا۔ تفیّأ تفیُّؤًا الاخبارَ: خبروں کے متعلق پوچھنا، خبریں حاصل کرنا۔ استفاءَ إستفاءةً المالَ: کو بطور مال غنیمت لینا۔ ۔ الاخبارَ: خبروں کے متعلق پوچھنا، خبریں حاصل کرنا۔ الفَیْء جمع افیاء و فُیُوء: غنیمت، خراج۔

۳۔ الفَیئة: وقت۔

○ فاءَ ۔فیئاً: واپس آنا، (سائے) کا مغرب سے مشرق کو منتقل ہونا۔ فیّأ: درخت کا سایہ مہیا کرنا، گھنا ہونا، سایہ دار ہونا۔ افاءَ علی ہ: کو کچھ بطور مال غنیمت دینا، کو انعام دینا، کو کچھ عطا کرنا۔ تفیّأ ہ/فی: کے ساتھ اپنے آپ پر سایہ کرنا، کے نیچے سایہ تلاش کرنا۔ فیء جمع افیاء و فُیُوء: (بعد از دوپہر کا) سایہ۔ فِیتامین جمع فیتامینات: وٹامن (vitamin)۔ فیتنام: ویتنام (Vietnam) (ایک ملک کا نام)۔ فِیتو: veto ویٹو۔ حق الفیتو: ویٹو کرنے کا حق (veto power)۔ فَیتُون: فٹن (phaeton) (چار پہیوں والی گاڑی)

فیج: ا۔ افاجَ فی عَدْوِهِ: دوڑنے میں دیر کرنا۔ ۔ القومُ فی الارض: ملک میں جا کر پھیل جانا۔ الفَیْج جمع فُیُوج: ایلچی، ہرکارہ، خادم (یہ لفظ فارسی پیک سے معرب ہے)؛ لوگوں کی جماعت۔

۲۔ الفَیْج جمع فُیُوج: پست زمین۔ الفائجة جمع فوائج: دو پہاڑوں کے درمیان وادی۔

۳۔ الفیجیتالین: بناسپتی تیل جو پکانے اور تلنے میں گھی اور تیل کی طرح استعمال کیا جاتا ہے (لاطینی زبان کا لفظ)

فیح: ا۔ فاحَ ۔فَیحاً و فَیَحاناً الحرُّ: گرمی کا تیز ہونا۔ ۔ تِ القِدرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ افاحَ القِدرَ: ہانڈی کو جوش دینا۔

۲۔ فاحَ ۔فَیحاً: کشادہ ہونا۔ ۔ تِ الغارةُ: غارت کا وسیع ہونا، منتشر ہونا۔ ۔ فَیحاً و فُیوحاً الدمُ: خون گرنا، بہنا۔ ۔ تِ الشجّةُ: زخم کا بہت مقدار میں خون بہانا، زخم سے بہت خون بہنا۔ ۔ الشیءَ: کا ڈھکنا اٹھانا (عوام کی زبان میں)۔ ۔ الربیعُ: موسم بہار کا سرسبز ہونا۔ ۔ یَفاحُ فَیَحاً: کشادہ ہونا۔ ۔ تِ الغارةُ: غارت کا وسیع اور منتشر ہونا۔ فیّحَ الشیءَ: کو کثرت اور وسعت کے ساتھ تقسیم کرنا۔ اسی سے ہے: لو ملكتُ الدنیا لَفَیَّحتُها فی یوم واحد: اگر میں دنیا کا مالک ہوتا تو ایک ہی دن میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ افاحَ الدماءَ: خون بہانا۔ الفَیْح و الفَیَح: کشادگی۔ فَیاحِ: غارت کا اسم۔ کہا جاتا ہے: فیحی فَیاحِ: اے غارت پھیل جا۔ غارَة: لوٹ ڈالنے والے گھوڑے۔ الفیّاح م فیّاحة: اسم مبالغہ ہے۔ فیاض۔ بحر فیّاحٌ: بہت وسیع سمندر۔ رجلٌ فیّاحٌ: فیاض مرد، بڑا سخی مرد۔ الأفیَح م فیحاء جمع فِیح: کشادہ، وسیع۔ الفَیحاء: وسیع مکان، بصرہ، دمشق اور طرابلس کا لقب۔

○ أفیَح مونث فَیحاء: معطر، خوشبودار، وسیع، بہت بڑا، دور تک پھیلا ہوا۔ الفَیحاء: دمشق کا لقب۔ فیّاح: بہت خوشبودار، بہت معطر، تیز بو والا۔

فیخ: فاخَ ۔فَیخاً و فَیَخاناً: دیکھو فاخَ یفوخُ۔ (واوی) کیونکہ یہ فاخ یفوخ کے معنی میں ہے۔

فید: ا۔ فادَ ۔فیداً: مرنا۔ ۔ المالُ له: کا مال جاتا رہنا۔ افادَ إفادةً الرجُلَ: کو مار ڈالنا۔ ۔ الجَزورَ: بکری یا اونٹ ذبح کرنا۔

۲۔ فادَ ۔فَیداً المالُ له: کو مال حاصل ہونا، میسر آنا۔ ۔ ت له فائِدةٌ: کو فائدہ حاصل ہونا۔ افادَ إفادةً الرجُلَ علماً او مالاً: کو علم یا مال دینا۔ ۔ منه علماً او مالاً: سے علم یا مال لینا، سے علم یا مال کا اکتساب کرنا۔ تفایَدَ القومُ بالمال: ہر ایک کا ایک دوسرے کو مالی فائدہ پہنچانا۔ إستَفادَ منه علماً او مالاً: سے علم یا مال لینا، سے علم یا مال کا اکتساب کرنا۔ الفائِدة جمع فوائِد: وہ زیادتی جو انسان کو حاصل ہو، مال یا علم جو انسان حاصل کرے یا اکتساب کرے۔ (ت): سود۔ الفائِدة البسیطة: سادہ سود۔ الفائِدة المرکَّبة: سود مرکب۔

۳۔ فادَ ۔فَیَدَاناً و فیّدَ و تفیّدَ الرجُلُ: ناز سے چلنا۔ الفیّاد و الفیّادة: ناز سے چلنے والا۔ کہا جاتا ہے: هو یمشی علی الارض فیّاداً میّاداً: وہ زمین پر ناز سے اکڑتا ہوا چلتا ہے۔

۴۔ فیّدَ: الّو کی آواز سے بدفالی لینا۔ الفیّاد (ح) نر الّو۔

۵۔ الفَید: زعفران کی پتی۔

○ افادَہ: کو فائدہ پہنچانا، کی مدد کرنا، کو فائدہ، مدد یا کام دینا، کے لئے مفید اور ممد ہونا، کو فائدے پہنچانا۔ ۔ ہ ہ: کو کچھ سکھانا۔ ۔ ہ ہ/ب: کو کی اطلاع دینا، کی

صلاح دینا، کو سے واقف کرنا، آگاہ کرنا، مطلع کرنا، کو
کی اطلاع دینا، کو کے متعلق بتانا۔ — ہ /ب: کی پولیس
کو اطلاع دینا، کی پولیس کو رپورٹ کرنا۔ — ان یابان:
کہ) — ہ: کو حاصل کرنا، جیتنا، اکتساب کرنا۔ —
ص— سے فائدہ، نفع حاصل کرنا، سے فائدہ اٹھانا، کو
فائدہ یا حساب میں منتقل کرنا۔ (گرامر میں) مکمل معنی
دینا۔ استفاد ہ کو اکتساب کرنا، حاصل کرنا، جیتنا؛
کے متعلق جاننا، بتایا جانا، مطلع ہونا۔ — ص/ب سے
فائدہ، نفع اٹھانا، سے مستفید ہونا، کو حساب یا فائدہ میں
منتقل کرنا، کو برتنا، استعمال کرنا، استعمال میں لانا، کا
مصرف ڈھونڈنا، کو منفعت بخش استعمال میں منتقل کرنا۔
—— ص سے نتیجہ اخذ کرنا، کو لگنا، خیال کرنا، سمجھنا۔
فُید زیادہ فائدہ مند، زیادہ کارآمد، زیادہ نفع بخش۔
افادۃ افادیت، مفید ہونا، فائدہ، نفع، منفعت، جمع
افادات نوٹس، اطلاع، مکتوب، مراسلہ، پیغام،
شہادت، تصدیقی بیان، حلفی بیان (عدالت میں)۔
افادۃ الاستلام: وصولی کی رسید
acknowledgment of receipt
استفادۃ استعمال، استفادہ۔ فائدۃ افادیت،
فائدہ، مدد، کام، نفع، منفعت، سود (روپیہ پر)، مفید
سبق، نتیجہ۔ مُفید مفید، کارآمد، سودمند، موافق،
مناسب حال، منفعت بخش، معلومات افزا۔ مُفاد
مضمون، مافیہ، محتویات جوہر، لبِ لباب، خلاصہ، معنی،
مفہوم، منشا (کسی مضمون کا)۔ اشاعۃ مفادھا ان:
افواہ کہ، بدیں معنی کہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ۔
فِیدرالی وفاقی (federalistic)۔ دولۃ
فیدرالیۃ وفاقی ریاست۔
فیر الفِیرُوز و الفَیرُوز و الفِیرُوزج و الفَیرُوزج:
ایک قسم کا قیمتی پتھر، فیروزہ۔
⊙ فیرُوس جمع فیروسات: کسی متعدی مرض کا زہر
(virus)۔ فِیزا: ویزہ (visa)۔ فِیزیاء:
طبعیات (physics)۔ فِیزیائی: طبیعیاتی
(physical)۔ فِیسیُولوجیا: عضویات، علم اعضاء
(physiology)۔ فِیش جمع فیشات:
(برقی) پلگ (electric plug)۔
فیش ا۔ فاش -فیشًا: فخر کرنا، تکبر کرنا، صفت:
فائش۔ فَایَش فِیاشًا و مُفَایشۃً ہ: سے مفاخرت
کرنا۔ — الرجُلُ لڑائی میں ڈینگ مارنا، کو کھلی دھمکی
دینا۔ تفیّش الامر: کا لغو دعوی کرنا۔ تفایش القوم:
ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ الفیّاش: بہت فضیلت والا
سردار، فخر کرنے والا۔ الفَیُوش: فخر کرنے والا۔

۲۔ فیّش عن الامر: (میں) بزدلی کرنا، پیچھے ہٹنا۔ تفیّش
عنہ: سے عاجزی اور کمزوری سے پلٹ جانا۔ الفیُوش:
کمزور بزدل۔
۳۔ الفائش عند العامۃ: سطح آب وغیرہ پر تیرتا ہوا،
گہرے کا الٹ یعنی سطحی، اس کا فعل عوام کے نزدیک
واوی ہے۔ کہتے ہیں: فاش یفوش۔
۴۔ الفاشِستی: فسطائی، فاشی (fascist)۔
⊙ فیّاش: شیخی خورہ، مغرور، شان یا مہارت دکھانے والا
فیص فاص -فَیصًا فی الارض: زمین یا ملک میں
جانا۔ — ہُ: سے بچ نکلنا۔ — منہ: سے ہٹ جانا۔ کہا
جاتا ہے: مافصتُ افعل: میں کرتا رہا ہوں۔ افاص
الکلام: کو ظاہر کرنا۔ — ت یدُہ: انگلیوں کا کسی چیز
کے پکڑنے سے عاجز رہنا۔ کہا جاتا ہے: مالکَ عنہ
محیص: تمہارے لئے اس سے ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں۔
فیض ا۔ فاض -فیضًا و فیضانًا و فیوضًا و فیوضا
و فیوضۃً و فیضوضۃً السیلُ: سیلاب کا بہت
ہونا اور وادی کے کنارہ سے بہنا۔ — کل سائل: ہر
مائع کا بہنا۔ کہا جاتا ہے: فاضت عینُہُ: آنکھ سے آنسو
بہہ پڑے۔ — الشیءُ: بہت ہونا۔ — الخبرُ: خبر کا
پھیل جانا۔ — فیضًا الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ —
صدرُہُ بالسِرّ: بھید کو چھپا نہ سکنا، راز فاش کر دینا۔
اَفاض افاضۃ الدمع: آنسو بہانا۔ — الماءَ: پانی
گرانا۔ — الاناءَ: برتن کو لبریز کرنا۔ — القومُ من
المکان: لوگوں کا جگہ سے نکل کر متفرق و منتشر ہو جانا۔
— القومُ فی الحدیث: گفتگو میں مشغول ہو جانا۔
— القومُ علی الرجل: پر غالب ہو جانا۔ — بالشیء:
چیز کو پھینک دینا۔ کہا جاتا ہے: ما افاض بکلمۃ:
اس نے ایک لفظ نہیں کہا، وہ کچھ نہیں بولا۔ تفیّض
الجفنُ: (آنکھ کا) آنسو بہانا۔ استفاض
استفاضۃَ الخبرُ: خبر کا پھیل جانا۔ — الرجُلَ
سے پانی بہانے کو کہنا۔ — المکانُ: جگہ کا کشادہ
ہونا۔ — القِداحَ بالقِداح: تیر سے جوا کھیلنا۔ —
القومُ فی الحدیث: لوگوں کا باتیں شروع کر دینا۔
— الوادی شجرًا: وادی کا کشادہ اور بہت درختوں
والی ہونا۔ درعٌ فاضۃ: کشادہ زرہ۔ الفیض جمع
فُیُوض و افیاض: بہت۔ کہا جاتا ہے: ماءٌ فیضٌ
بہت پانی۔ اَعطاہُ غیضًا من فیضٍ: اس نے بہت
میں سے اسے تھوڑا سا دیا۔ — جل فیضٌ بہت
سخاوت کرنے والا۔ — من الخیل: بہت تیز گھوڑا۔
ارضٌ ذاتُ فیوض: بہتے پانی والی زمین۔ الفیّاض:
بہت پانی والا۔ کہا جاتا ہے: بحر ... بہت پانی

والا دریا۔ رجُلٌ فیّاضٌ: بہت بخشش کرنے والا۔
حدیثٌ مُفاضٌ و مُستفیضٌ و مُستفاضٌ فیہ:
پھیلی ہوئی بات۔ درعٌ مُفاضۃٌ: کشادہ زرہ۔
۲۔ فاض -فیضًا و فیوضًا: مر جانا۔ — ت نفسُہ:
اس کی جان نکل گئی۔ الفیض (مص): موت۔ کہا
جاتا ہے: ذھبنا فی فیض فلان: ہم فلاں کے جنازے
میں گئے۔
⊙ فاض - فیضًا و فیضانًا: چھلکنا، کناروں سے باہر
آنا۔ — علی: کو غرقاب کرنا، زیرآب کرنا۔ —: بہنا،
جاری ہونا، نکلنا، بہت ہونا، وافر ہونا، کثرت سے ہونا،
افراط سے ہونا۔ — فیضًا: (خبروں کا) پھیلنا۔ (فیض
وفیوض مصدر کے ساتھ) فاضت روحُہ او نفسُہ:
اس کی جان نکل گئی، وہ مر گیا۔ افاض: بہنا۔ — ہ: کو
لباب لب بھرنا، کو اتنا بھرنا کہ وہ چھلکنے لگے یا کناروں
سے بہہ نکلے۔ — ہ علی: کو پر انڈیلنا۔ —— ہ:
(آنسو) بہانا۔ — فی: اپنی بات یا تقریر میں پرگو یا یا
لفاظی سے پر ہونا، بڑے دم والا ہونا، طوالت پسند ہونا،
کے پیچھے کسی پابندی کے بغیر اندھا ہو جانا یا کا ہو رہنا۔
— ب: کے بارے میں تفصیل سے رپورٹ کرنا یا گفتگو
کرنا، پر تفصیل سے لکھنا یا بولنا۔ —— علی ب: سے
کوئی چیز وغیرہ تفصیل سے بیان کرنا۔ — ب: (لفظ)
کا وضاحت سے تلفظ کرنا۔ استفاض علی: پر انڈیلنا،
پھیلانا، کو غرقاب کرنا۔ — (خبر) کا پھیلنا، بہت ہونا،
کی بہتات ہونا، بہت زیادہ ہونا، مفصل ہونا، جامع اور
مکمل ہونا۔ فیض سیلاب، طوفان، طغیانی، افراط، بہتات
فراوانی جمع فیوض: چشمہ۔ فیّاض: چھلکتا ہوا،
کناروں سے بہنے والا، بہت، پرجوش، لبریز، مالا مال،
مفصل، جامع (تقریر وغیرہ) بہت فیاض، سخی۔
فیّاض الخاطر: ذہین، فطین، طباع، خیالات سے
بھرا ہوا۔ فیضان: طغیانی، سیلاب۔ مَفیض: باہر
نکلنے کا راستہ، نکاس، موری، نالی۔ لیس لنا منہ
مفیض: ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ لایجد مفیضًا
من: یقینًا اسے کرنا ہوگا۔ لایجد مفیضا الی
الکلام: وہ آزادی سے بات کرنے کا موقع نہیں پا
سکتا۔ اِفاضۃ: جامعیت، تفصیل۔ استفاضۃ:
بہتات، کثرت، افراط، فراوانی، وفور۔ فائض:
بہت، بافراط، کثیر، وافر، زائد جمع فوائض: (روپیہ
پر) سود۔ مُستفیض مفصل، تفصیلی، جامع۔
فیظ فاظ -فیظًا و فیظانًا و فیوظًا و فیظوظۃً: مر
جانا۔ افاظہُ اللہُ: اللہ تعالی کا کسی کو موت دینا۔ کہا
جاتا ہے: ضربتُہُ حتی افظتُ نفسَہ: میں نے

اس کو مار کر قتل کر دیا۔ الـفَـيْـظ (مص): موت۔ کہا
جاتا ہے۔ جَـاءَ فَيظُهُ: اس کی موت کا وقت قریب
آ گیا۔
⊙ فائِظ: بھاری سود، سودخواری۔ فـايظجي: سودخوار،
سودخور۔
فيف: الفَيْف جمع اَفْيَاف و فُيُوف: وہ جنگل جس
میں پانی نہ ہو، ہموار جگہ ـــــ من الارض: مختلف
ہواؤں والی زمین۔ الفَيْفَاء جمع فَيَافٍ: چکنا پتھر۔
ـــ والفيفاة و الفَيفَى جمع فياف: وہ جنگل جس
میں پانی نہ ہو، ہموار جگہ۔
⊙ فَيْفَاء جمع فَيَافٍ: ریگستان، بیابان۔ فِيكَوُنت:
وائی کاؤنٹ (viscount)۔
فيق: فَاقَ فَيْقًا: جان دینا۔ اَفْيَقَ افياقًا الشاعرُ:
عجیب کلام کہنا۔ الفِيق (مص): مرغیوں کی آواز۔
فيل: فَالَ فِيْلَةً و فُيُولَةً و فَيْلُولَةً رَأيُهُ: غلط اور
کمزور رائے والا ہونا۔ صفت فَـايِل الراى و فَالُهُ و
فِيلُهُ و فَيْلُهُ (ضعيف الراى)۔ فَيَّلَ رَأيَهُ: کی
رائے کو غلط اور برا کہنا ـــــ الرجُلُ في رأيه: صحیح
رائے قائم نہ کرنا۔ تَـفَيَّـلَ رَأيُـهُ: کی رائے کا کمزور
ہونا۔ فَـال الـرأى و فائِلُهُ و فِيلُهُ: ضعيف الراى۔
الـفَيْلَة مص: عوام کہتے ہیں اَتَمنّى فَيْلَةً على
فلان: مجھے موقعہ ملا کہ فلاں شخص سے اپنی ضرورت پوری
کروں۔ فِيَـلُ الـراى جمع اَفْـيَـال: کمزور رائے
والا۔ الفيالة: رائے کی کمزوری۔
٢۔ فَالَ ـفِيْلَةً و فُيُولَةً و فَيْلُولَةً الرجُلُ: ہاتھی جیسا
بڑا ہونا۔ تَـفَيَّـلَ الـرجُلُ: موٹا ہونا۔ الفِيل (ح)
جمع اَفْيَـال و فِيَلَة و فُيُول م فِيلَة: ہاتھی، مرد
فرومایہ۔ داءُ الفيل (طب): ایک بیماری جس سے
پاؤں سوج جاتا ہے۔ اس کو فیل پا کہتے ہیں۔ الفَيَّال
جمع فَيَّالَة: ہاتھی کا محافظ، مہاوت ہاتھی والا۔ فَيِّلُ
اللحم جمع اَفْيَال: بہت گوشت والا۔ المَفْيُولاء
(ح): ہاتھی کے بچے۔
٣۔ تَـفَيَّلَ النباتُ: نباتات کا بڑھنا۔ الشبابُ: جوانی
کا ڈھلنا۔
٤۔ الفال: الفَأل کا مخفف۔
٥۔ الفَيلَجَة جمع فَيَالِج (جسے الصُّلَّجة بھی کہتے ہیں)
ریشم کے کیڑے کا کویا۔ عوام لوگ اسے الشرنقة کہتے
ہیں۔
٦۔ الفَيلَق جمع فَيَالِق: بڑا لشکر، بڑا آدمی۔
٧۔ الـفَيْلَم جمع فَيَالِم: بزدل، چوڑے منہ کا کنواں،
کنگھی، دسترخوان کے نیچے بچھانے کا چمڑا، تلچھٹ کی
کثرت۔ والفيلماني: بڑا قد آور آدمی۔
٨۔ الفِيلِرِيَة (ن): ایک درخت جس کے پتے بیضوی شکل
کے اور قدرے خاردار ہوتے ہیں پھل چھوٹے
چھوٹے انگوروں جیسے، آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔
⊙ فَـال ـفُيُولَةً و فَيْلُولَةً: رائے کا غلط ہونا۔ فِيل
جمع فِيَلَة و فُيُول و اَفْيَال: ہاتھی، شطرنج کا رخ یا
فیل (bishop)۔ سِـنُّ الـفِيـل: ہاتھی دانت۔
فِيلا: جمع فِيلات: کوٹھی، ویلا۔ الفيلاريا: فلاریا
(filaria)۔ الـفِيلِبين: فلپائن ایک ملک (the
Philipines)۔ فِيلَج و فَيْلَجَة جمع فَيَالِج:
(ریشم کے کیڑے کا) کویا (cocoon of the
silkworm)۔ فَيْلَسُوف جمع فلاسفه:
فلسفی۔ فَيلَق جمع فَيَالِق: فوج کا ایک بڑا یونٹ،
کور (ڈویژن فوج)۔ فِيـلْـم: فلم (film) جو پردۂ
سیمین پر دکھائی جاتی ہے۔ فِيلُولُوجيا: لسانیات
(philology)۔ فِيمَا و فِيمَ: کیوں؟ کس لئے؟
فين: فان ـفَيْنًا: آنا۔ الفَيْنَة: لمحہ، (زمانہ، وقت۔ کہا
جاتا ہے اَلـقـاه الـفَيـنة بـعدَ الفَيْنَةِ او فَيْنَةً بعد
فَيْنَةٍ: میں اسے وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہوں) ـــــ عند
العامة: بزدلی۔ عوام کہتے ہیں: فَانَ فهو فائِنٌ: اس
نے بزدلی کی، لہٰذا فائن بمعنی بزدل ہے۔ فَيَّـنَـهُمْ
فلانٌ: فلاں شخص ان کی بزدلی کو منظر عام پر لے آیا۔
الفَيَّان م فَيَّانَة: خوبصورت لمبے بالوں والا۔
⊙ فَيْنَة جمع فَيْنَات: وقت، لمحہ، آن، گھڑی، لحظہ۔
الـفَيْـنَة بـعـد الـفَيْنَةِ، الفينة بعد الاخرى، بين
الفينة و الفينةِ اور فى الفَيْنَةِ بعد الفينة: وقتاً
فوقتاً، کبھی کبھی، کبھی کبھار۔ فِينا: وی آنا (ملک کا نام)
(Vienne)۔ فِيـنـوس: زہرہ (Venus)۔
فِينِيسيا: Venice وینس (ایک شہر کا نام)۔
فِينِيقي: فونیشیا کا باشندہ (جمع فِينِيقيون):
فونیشیائی تہذیب ادب وغیرہ۔
فيه: تَفَيْهَقَ فى الكلام: بہت پھیلا کر گفتگو کرنا۔ فى
مشيته: ناز سے چلنا ـــ عليه بكذا: ـــ سے پر بڑا
بننا۔ الفَيْهَق جمع فَيَاهِق: ہر کشادہ چیز۔
⊙ تَـفَيْهَـق: طولانی ہونا، اکتا دینے والی حد تک طویل
ہونا، تفصیلی ہونا، مفصل ہونا۔ فَيْهَـقَة: بہت طولانی
ہونا، اکتا دینے والی حد تک طوالت۔ الـفَيُّوم: شمالی
مصر کا ایک قصبہ۔

ق

ق: تلفظ القاف حروف تہجی میں ۲۱واں حرف اور ابجد میں ۱۰۰ کے برابر ہے۔

ق: دقیقہ (منٹ) کا مخفف۔

قاب: قَأَبَ ـَ قَأْبًا الطعامَ: کھانا کھانا۔ الماء: پانی پینا۔ قَئِبَ ـَ قَأْبًا وقَأَبًا ـ من الشراب: کوزیادہ پینا۔ الْقَوْأَبُ والقَوْأَبِیُّ من الآنیة بہت پانی لینے والا برتن۔ القَؤُوبُ والمِقْأَبُ: بہت پینے والا۔

قَاق: القَاقَاءُ: کوے کی کائیں کائیں۔ القَوْقَیُ انڈے کی سفیدی، انڈے کا باریک چھلکا۔

قَأَی: قَأَی ـَ قَأْیًا الرجُلُ: حق خصم کا اقرار کرنا، دشمن کا مطیع ہونا۔

قادِس: جنوب غربی ہسپانیہ کی ایک بندرگاہ قادُوس جمع قوادیس: پن پہیہ کا ڈول، کنچہ۔

قازُوزَة: سوڈا واٹر

قاشانی: چینی کے برتن، برتن بنانے والی چینی۔

قاف: حرف ق۔ جبل القاف: کوہ قاف۔ قَاقُلَّة: الائچی۔

قَاقُلَّی ایک خاردار جھاڑ بوٹی جس کے پتے سوڈا ایش بنانے کے کام آتے ہیں۔ قَاقُم: گلہری کی قسم کا ایک پوستین والا جانور، قاقم: اس جانور کی پوستین کا کپڑا۔

قَالِب جمع قَوَالِب: شکل، صورت، سانچہ، قالب، کیک پان، نمونہ، مقام نشوونما، جوتے کا کالبد، قَالَبُ جُبن: پنیر کی قاش یا ٹکیہ یا ڈلا۔ قَالَبُ سُکَّر: چینی کا ڈلا، مصری کا ڈلا، قَالَبُ صابون: صابن کی ٹکیہ یا سلاخ۔ قَلْبًا و قَالِبًا: دل وجان سے، دلی طور پر یا ظاہری طور پر۔ قَالُوش جمع قَالوشات (فرانسیسی لفظ): برساتی بوٹ، بالائی بوٹ۔

قامُوس جمع قوامیس: بڑا سمندر، ڈکشنری، لغات۔

قان: احمر قانٍ: گہرا سرخ، خون جیسا سرخ۔ قانی: گہرا سرخ، خون جیسا سرخ۔

قانون جمع قوانین: عام قاعدہ، قانون، مستقل اصول، بنیادی ضابطہ، مسلمہ بات، بدیہی حقیقت، معیار، مکمل مثال، خاص یا ہنگامی قانون، حکم، فرمان، مجموعہ قوانین، محصول، خراج، ٹیکس، کھجوروں اور زیتون کے درختوں پر (تیونس میں عائد کردہ) ٹیکس، ایک چھ تار آلہ طرب القانون الاساسی: بنیادی آئین مجموعہ قوانین، تحریری قوانین، قانون التأسیس: آئین، تحریری قوانین۔ القانون الجنائی: تعزیری قانون، فوجداری قانون۔ قانونُ الاحوالِ الشخصیة: نجی تحریری قانون، القانون الدستوری: آئینی قانون۔ القانون الدُّوَلِی: بین الاقوامی قانون۔ قانون المُرافَعات: طریق کار کے متعلق ضابطہ قانون۔ قانونُ اصولِ المحاکمات الحقوقیة: بمعنی بالا۔ قانونُ السِلكِ الاداری: انتظامی قانون قانونٌ کِیماوِیٌ: کیمیاوی ترکیب (فارمولا)۔ القانونُ المَدَنِی: سول لاء۔ دیوانی قانون۔ قانونی: شرعی، دینی، مذہبی، قانونی، قانون کے مطابق، جائز، قانون کی نظر میں، قانوناً اور شرعاً جائز، باضابطہ، صحیح النسب، جائز عقد سے، حلال، باقاعدہ، ماہر قانون، قانون دان، صیدلی قانونی: لائسنس یافتہ مصدقہ دواساز۔ غیرُ قانونی: غیر قانونی، ناجائز، قانونِیَّة: ضابطہ سے مطابقت، قانون سے مطابقت۔ قاوِرْمَة: چھوٹے یا بڑے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جنہیں پیاز، ٹماٹر یا سکواش کے ساتھ دم پخت کیا گیا ہو۔ قاوُق و قاوُوق جمع قواویق: نمدے کی اونچی ٹوپی قاوُون: خربوزہ۔

قایِش جمع قَوَایِش: چمڑے کا تسمہ، فیتہ، پٹی، پیٹی، تنگ، استرا لگانے کا پٹہ۔

قَبّ: ۱۔ قَبَّ ـُ قَبًّا النباتُ: نباتات کا خشک ہونا۔ قَبَّ ـِ قُبُوبًا اللحمُ وغیرہ: گوشت وغیرہ خشک ہونا اور اس کی تازگی ختم ہونا۔ ـَ قَبًّا الخصرُ او البطنُ: کمر کا باریک یا پیٹ کا دبلا ہونا۔ قَبِبَ یَقَبُّ قَبَبًا الخصرُ او البطنُ: کمر کا باریک یا پیٹ کا دبلا ہونا۔ قَبَّبَ التمرُ: کھجور کا خشک ہونا۔ القَابُّ (فا)۔ القَابَّةُ: القاب کا مونث۔ القَبَبُ (مص) کمر کا باریک ہونا، پیٹ کا پتلا ہونا۔ الاَقَبُّ من الخیل مونث قَبَّاء" ج قُبٌّ: باریک کمر، پتلے پیٹ والا گھوڑا۔ القُبِّیُّ: لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے دبلے پیٹ والا۔ القَبِیبُ: خشک نباتات کا نام۔ المُقَبَّبُ والمَقْبُوبُ: دبلا۔

۲۔ قَبَّ ـِ قَبًّا الشیئَ: کی اطراف کو جمع کرنا۔ القُبَّةَ: گنبد بنانا۔ عوام کہتے ہیں: قَبَّ القَوْمُ: لوگ اٹھے اور چلے گئے اور کہا جاتا ہے۔ قَبَّ الشیئُ: چیز بلند ہو گئی۔ قَبَّبَ الرجُلُ: گنبد بنانا۔ ــ الشیئَ: کے اطراف کو جمع کرنا۔ ــ البیتَ: گھر کو گنبد دار بنانا۔ تَقَبَّبَ القبةَ: گنبد میں داخل ہونا۔ قَبُّ المیزان: عوام الناس کے نزدیک ترازو کی ڈنڈی۔ القُبَّةُ ج قِبَاب" وقُبَب" (ب): گنبد۔ القبةُ الخضراءُ والزرقاءُ: گنبد آسمان۔ القُبَّةُ الکرویة (ہ) قبہ کی سطحوں کے درمیان میں ایک متوازی سیدھا خط جو دونوں سطحوں کو مساوی تقسیم کرے۔ (ہ) کرہ کے دونوں اطراف کے درمیان میں ایک سیدھا قطع کرنے والا خط۔ قبةُ الاسلام: بصرہ (شہر کا نام)

قبة الشهادة عند اليهود ایک خیمہ تھا جس میں یہود تابوت عہد کو چھپاتے تھے۔ اور اس کو قبة الزمان بھی کہتے تھے۔ القُبَابُ من الانوف موٹی ناک۔

۳۔ قَبَّ ـُ قَبًّا يدَ فلانٍ کا ہاتھ کاٹنا۔ اقْتَبَّ يدَهُ کا ہاتھ کاٹنا۔ القَسَّابُ من السيوف و نحوها شمشیر براں، وغیرہ

۴۔ قَبَّ ـِ قَبِيْبًا القومُ جھگڑے میں آواز بلند کرنا۔ ـ قَبًّا و قَبِيْبًا الاسدُ والفحلُ دانت پینا۔ القَبُّ (مص) جوان گھوڑا وغیرہ۔ القَابَة بادل کی گرج۔ القَبَّابُ اسم مبالغہ (ح) شیر۔

۵۔ قَبَّ ـِ قَبًّا و قَبِيبًا طَيَّ الثوب کپڑے کی تہہ کو لپیٹنا۔ القَبُّ قمیص کے گریبان میں لگانے کی دھجی، چرخی کا سوراخ۔

۶۔ القَبُّ سردار قوم۔ قوم کا لیڈر جس پر قوم کا دارومدار ہو۔ غلہ کا ایک پیمانہ القِبُّ سردار قوم، دونوں سرینوں کے درمیان پیٹھ کی ابھری ہوئی ہڈی۔ القابُ آئندہ تیسرا سال کہا جاتا ہے۔ انك لا تنجح العام الحاضر و الاالقابل ولا القابَّ تو نہ تو اس سال کامیاب ہوگا نہ آئندہ سال اور نہ تیسرے سال کامیاب ہوگا۔ القَابَّةُ بارش کا قطرہ۔

قبج: القَبَجُ (ح) چکور، کبک کا معرب ہے۔ القَبَجَةُ القبج کا واحد، مذکر و مونث پر اطلاق ہوتا ہے۔ القَبَاجُورُ او الاَبَاجُورُ کھڑکی کا قفل جس کا چھپکا چول پر گھومنے والا یا سرکنے والا ہو۔

قبح: قَبَحَ ـَ قَبْحًا و قُبُوحًا هُ اللّٰهُ عن الخير کو افعال خیر سے محروم کردینا صفت مفعولی مَقْبُوْحٌ کہا جاتا ہے۔ قَبَحْتُ لَهُ وَجْهَهُ یعنی میں نے اس کو قَبَحَهُ اللّٰهُ کہا قَبُحَ ـُ قُبْحًا و قَبْحًا و قَبَاحَةً و قُبَاحًا و قُبُوحًا و قُبُوحَةً برا ہونا۔ قَبَّحَ هُ اللّٰه عن الخير: کو افعال خیر سے محروم کردینا۔ ــــ له وجهَهُ کے کام کو ناپسند کرنا، کسی کے عمل کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرنا۔ ـ عليه فعله کے فعل کی قباحت ظاہر کرنا۔

قَابَحَ مُقَابَحَةً هُ آپس میں گالی گلوچ کرنا۔ اَقْبَحَ الرجُلُ برا فعل کرنا۔ اِسْتَقْبَحَ الشيئَ کو برا سمجھنا۔ القُبْحُ (مص): قول یا فعل یا صورت کی برائی۔ القَبِيحُ ج قِبَاحٌ قَبْحَى وقَبَاحَى برا۔ القَبِيحَةُ ج قِبَاحٌ وقَبَائِحُ برا کام، عمل قبیح۔

۲۔ قَبَحَ ـَ قَبْحًا و قُبُوحًا و قَبَحَ البَيْضَةَ انڈا توڑنا۔

۳۔ القَبِيحُ و القَبَاحُ (ع ا) ران اور پنڈلی کے ملنے کی جگہ۔ ــــ (ع ا) بازو کی ہڈی کا کنارا جو کہنی سے ملتا ہے۔

⊙ قَبَّ ـُ قَبًّا ه کو کاٹ ڈالنا ـ: سیدھا ہونا، کھڑا ہونا، چڑھنا، روئیں کھڑا ہونا۔ قَبَّ جمع اَقُبّ: پہیے کا درمیانی حصہ، مرکز، مدار، ترازو کی ڈنڈی۔ قُبَّة جمع قِبَاب و قُبَب قبہ، گنبد، گنبددار عمارت، گنبد نما آستانہ، درگاہ یا مزار، یادگار، درگاہ، ولی کا کبہ۔ قُبَّة الجرس گرجے کا گھنٹہ گھر، گھنٹی گھر۔ قُبَّة الاسلام: بصرہ شہر کا لقب۔ مُقَبَّب گنبد نما، قبہ نما، مُحَدَّب۔ قَبَّة جمع قَبَّات کالر (قمیض کی) قَبْج و قَبَج جمع قِباج ایک قسم کا تیتر۔ واحد قُبْحَة و قَبْحَة۔

⊙ قَبُحَ ـُ قُبْحًا و قَبَاحَةً بدصورت ہونا، مکروہ ہونا۔ باعث رسوائی ہونا، نفرت انگیز ہونا، خلاف طبیعت یا ناگوار ہونا۔ (جسمانی یا اخلاقی طور پر)۔ قَبَّحَ ه/ ه: کو بدصورت، مکروہ نفرت انگیز بنانا، کو بدنما کرنا، کی شکل بگاڑنا۔ ــــ عليه فعلَهُ: کے کام کو کھلے بندوں برا، مکروہ یا رسوا کن کہنا، کو پر ملامت کرنا۔ اِسْتَقْبَحَ ه/ ه: کو بدصورت، مکروہ یا رسوا کن پانا۔ ــــ ه: کو رسوا کن۔ موجب ذلت، فحش، شرمناک، گھٹیا، پست یا نخش یا برا پانا، کو ناپسند کرنا۔ قُبْح و قَبْح: بدصورتی، رسوائی، ذلیل حرکت، بدنامی، ذلت، شرمساری۔

قبيح جمع قِباح و قَبَاحَى و قَبْحَى: بدصورت، مکروہ، نفرت انگیز، باعث رسوائی، خلاف طبیعت یا ناگوار، بدنام، مذموم، برا، شرمناک، ہیچ، کمینہ، گستاخ، بے شرم، بے حیا، بے محل، بے موقع۔ قَبِيحَة جمع قَبَائِح و قِبَاح نفرت، شرمناک کام، گندی چال، ذلیل حرکت۔ قَبَاحَة بدصورتی، بدنامی، ذلت، رسوائی، شرمساری۔ اَقْبَح: زیادہ بدصورت، زیادہ بدنام، زیادہ نفرت انگیز، زیادہ کمینہ، زیادہ ذلیل، زیادہ حقیر، مقابح بدنما خصوصیات، نفرت انگیز خصلتیں۔

قُبَّار و قَبَّار جنوبی یورپ کی خاردار جھاڑی جس کی کلیوں سے اچار ڈالا جاتا ہے۔

قبر: ا۔ قَبَرَ ـِ قَبْرًا و مَقْبَرًا الميتَ: میت کو دفن کرنا۔ اَقْبَرَ هُ: کی قبر بنانا، کو دفن کیا جانے والا بنانا۔ ــــ القومَ: کو مقتول کو دفن کرنے کی اجازت دینا، کو مقتول دفن کرنے کے لئے دینا۔ القَبْرُ (مص) ج قُبُورٌ: انسان کے دفن کرنے کی جگہ۔ القَبُورُ: پست زمین۔ المَقْبُرُ و المَقْبُرَةُ و المَقْبِرةُ و المَقْبَرَةُ ج مَقَابِرُ: قبرستان۔ المَقْبَرِيُ و المَقْبُرِي مقبرہ کی طرف نسبت۔

۲۔ القَبَّارُ شکاری کا چراغ، لوگوں کی جماعت جو شکار کو جال سے کھینچنے کے لئے جمع ہو۔ القُبَّرَةُ و القُنْبُرَةُ و القُنْبَرَاءُ و القُنْبُرَاءُ ج قُبَّرٌ و قُبَرٌ و قَنَابِرُ (ح) ایک پرندہ ہے جس کو فارسی میں چکاوک اور اردو میں چنڈول کہتے ہیں۔ یہ مسلسل گاتا ہے۔ یہ اپنی غذا کی تلاش میں کھیتوں اور راستوں کا رخ کرتا ہے۔ القُبَّرِيَّةُ (ن) خوبصورت ارغوانی پھولوں والا پودا۔

۳۔ القُبْرُسُ: عمدہ تانبا۔

⊙ قَبَرَ ـِ قَبْرًا و مَقْبَرًا ه/ ه کو دفن کرنا، کی قبر پر مقبرہ بنانا۔ قَبْر جمع قُبُور: قبر، تربت، مزار، مقبرہ، مزار کا گنبد۔ مَقْبَر جمع مَقَابِر مقبرہ، مدفن، قبرستان، مَقْبَرة جمع مقابر بمعنی بالا۔ مَقْبَرِي و مَقْبِرِي گورکن، قبرستان کا محافظ۔ قُبَّر واحد قُبَّرَة چکاوک۔ چنڈول۔

قُبْرُص و قُبْرُس ایک جزیرہ کا نام، قُبْرصي قبرص کا، قبرص سے متعلق، قبرصی۔ القَبَارِصَة: قبرص کے لوگ، باشندے۔

قبز: القُبْزُ (مو): ایک قسم کا باجا۔ القِبْزُ پستہ قد، بخیل، عوام کہتے ہیں۔ قَبَزَ الرَّجُلُ: وہ جم کر نہیں بیٹھا۔

قبس: ا۔ قَبَسَ ـِ قَبْسًا منهُ النارَ: سے شعلہ لینا۔ ــــ النار: آگ جلانا۔ ــــ هُ النارَ: کسی کیلئے آگ لانا۔ اَقْبَسَ فلانًا: کسی کو آگ دینا۔ اِقْتَبَسَ منه النارَ بمعنی قَبَسَ ــ ه نارًا: کسی سے آگ لینا۔ القَابِسُ (فا) ج اَقْبَاسٌ: آگ طلب کرنے والا۔ القِبْسُ: اصل۔ القَبَسُ: آگ کا شعلہ۔ القَبْسَةُ: قبس کا اسم مرہ۔ قَبْسَةُ العَجْلان: جلد بازی کے لئے مثال ہے اور اس آگ لینے والے سے تشبیہ دی گئی ہے جو گھر میں داخل ہو اور صرف اتنی دیر ٹھہرے کہ آگ لے سکے۔ المَقْبَسُ ج مَقَابِسُ: لکڑی کا جلتا ہوا حصہ المِقْبَس: آگ کا شعلہ لینے کی چیز۔ المِقْبَاسُ: آگ کا شعلہ اور اسے لینے کی چیز المُقْتَبَسُ: آگ کا شعلہ۔

۲۔ قَبَسَ ــِ قَبْسًا العلمَ: علم سیکھنا، علم سے استفادہ کرنا۔ ــ فلانًا العلمَ: کو علم سکھلانا۔ اَقْبَسَ فلانًا العلمَ: کو علم سکھلانا۔ اِقْتَبَسَ منه العلمَ: بمعنی قَبَسَ۔ ــــ من العلم: علم سے استفادہ کرنا۔ ــــ الشاعرُ او الكاتبُ: اپنے کلام میں کوئی آیت یا حدیث یا کسی علم کا قاعدہ شامل کرنا اس سے علم بدیع والوں کے نزدیک اقتباس ہے۔ القَوَابِسُ اچھی بات سکھانے والے لوگ۔

۳۔ القَابُوسُ خوبصورت چہرہ اور اچھے رنگ کا مرد۔

⊙ قَبَسَ ـِ قَبْسًا ه من کو سے حاصل کرنا، عاریۃً لینا،

مستعار لینا، ادھار لینا، اپنانا، اخذ کرنا، قبول کرنا، اختیار کرنا۔ اِقْتَبَسَ من یا ناراً من: سے آگ لینا، مانگنا۔ ـــ من یا علما من: سے علم و معرفت لینا یا حاصل کرنا، کا خواہاں ہونا۔ ـہ: کو سیکھنا۔ ـہ من / عن: کو سے ادھار لینا، اپنانا، اخذ کرنا، اختیار کرنا، سنبھالنا۔ قَبَس: جلتی ہوئی لکڑی، دہکتا ہوا کوئلہ۔ قَبْسَة: جلتی ہوئی لکڑی۔ قابُوس: ڈراؤنا خواب۔ اِقْتِباس: سیکھنا، حصول علم، ادھار، قرض، ادھار لینا (مجازاً) اپنانا، اختیار کرنا، سنبھالنا، دے لینا، تحویل میں لینا، قبولیت، ادبی متن یا عبارت کے ٹکڑے کو حالات کے مطابق ڈھالنا۔ (کسی اور کے ادبی عمل یا خیالات کا) اقتباس، حوالہ۔ مُقْتَبَسات: قرضے، مستعار لی ہوئی (چیزیں)۔

قبص ۱۔ قَبَصَ ـ قَبْصًا ـ الفرسُ: گھوڑے کا بہت تیز دوڑنا صفت قَبُوْصٌ ـ قَبِصَ ـ قَبَصًا: سبک ہونا، چست ہونا۔ القَبُوْصُ: ہلکا پھلکا چست۔ القِبِصّی: تیز دوڑ۔ الاَقْبَصُ من الخیل مونث قَبْصاءُ ج قُبْصٌ: ہلکا پھلکا چست۔ المِقْبَصُ ج مَقَابِصُ: رسی جو گھوڑ دوڑ کے میدان میں باندھ دی جاتی ہے تا کہ سارے گھوڑے ایک قطار میں ہو جائیں۔ (دوڑنے کے لئے)

۲۔ قَبَصَ ـِ قَبْصًا و قَبَّصَ ـ الشیئَ: کی چٹکی لینا۔ اِقْتَبَصَ قَبْصَةً من کذا: کی چٹکی لے لینا۔ القَبْصَةُ و القُبْصَةُ ج قُبَصٌ و القَبِیْصَةُ: چٹکی۔ ـ من الطعام: لپ بھر خوراک۔ الاَقْبَصُ مونث قَبْصاءُ ج قُبْصٌ: وہ شخص جو چلنے میں قدم کے اگلے حصے سے غبار اڑائے اور غبار ایڑی پر پڑے۔

۳۔ قَبَصَ ـ قَبْصًا الرجلَ: کو سیراب ہونے سے پہلے پینے سے روکنا۔

۴۔ قَبِصَ ـ قَبَصًا الغلامُ: لڑکے کا جوان ہونا۔ قَبِصَ ـَ قَبَصًا: بڑے سر والا ہونا۔ الاَقْبَصُ: مونث قَبْصاءُ ج قُبْصٌ: بڑی کھوپڑی والا۔ القَبْصاءُ: بڑی کھوپڑی۔

۵۔ قَبِصَ ـ قَبَصًا: جگر کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔ القَبَصُ و القُبَاصُ (طب): کھجوریں اور پانی پینے کی وجہ سے جگر کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔

۶۔ قَبِصَ ـ قَبَصًا و تَقَبَّصَ الجرادُ علی الشجر: ٹڈیوں کا درخت پر اکٹھا ہونا۔ القَبَصُ: بہت ریت کا ڈھیر۔ القِبْصُ: ریت کا بڑا ڈھیر، بہت سے لوگ۔ حَبْلٌ قِبَصٌ: چھوٹی رسی۔ القَبِیْصُ: مٹی کا ڈھیر۔ القَبِیْصَةُ: مٹی کا ڈھیر، کنکری۔ القَوَابِصُ واحد قَابِصَةٌ: جماعتیں، پارٹیاں۔ ـــ حبلٌ مُتَقَبِّصٌ: چھوٹی رسی۔

قبص ـ قَبْصًا ـہ: کو انگلی اور انگوٹھے سے اٹھانا، کو چٹکی بھر لینا۔ قَبْصَة و قُبْصَة: چٹکی بھر، چٹکی۔

قبض ۱۔ قَبَضَ ـ قَبْضًا بیده الشیئَ و علی الشیئِ: کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑنا، پنجہ سے پکڑنا۔ الشیئَ: سمیٹنا کہا جاتا ہے۔ اللّٰه یقبض و یبسط یعنی اللہ کسی پر وسعت ڈالتا ہے اور کسی پر تنگی ڈالتا ہے۔ ـــ الطائرُ جناحَهُ: پرندے کا بازو سمیٹنا۔ الحادی الابلَ: اونٹ کو تیز ہانکنا۔ ـــ فی حاجته: میں جلدی کرنا، دامن سمیٹنا۔ ـــ القومُ: تیز چلنا۔ ـــ ہ اللّٰهُ: کو وفات دینا۔ ـ بطْنُهُ: قبض ہونا۔ الدارَ و نحوَها: پر قبضہ کرنا۔ ـــ منه المالَ: سے اپنے لئے مال لینا۔ ـ قُبْضَةً: مٹھی بھر لینا، کہا جاتا ہے۔ اِنَّهُ یَقْبِضُنِیْ مَاقَبَضَكَ: جس چیز نے تجھے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ قُبِضَ: مرنا۔ المریضُ: قریب المرگ ہونا۔ قَبَّضَ ـ الشیئَ: کو جمع کرنا، سمیٹنا، سکیڑنا کہا جاتا ہے۔ قَبَّضَ وَجْهَهُ فَتَقَبَّضَ: اس نے اپنا منہ بگاڑا پس وہ بگڑ گیا، اور کہا جاتا ہے۔ قَبَّضَ مَابَیْنَ عَیْنَیْهِ اس نے اپنی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر شکن ڈال لیا۔ ـ المالَ فلانًا: مال کسی کے قبضہ میں دینا۔ قَابَضَ مُقَابَضَةً ہُ: کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ اَقْبَضَ السیفَ: تلوار کا قبضہ بنانا۔ فلانًا المتاعَ: کو سامان پر قبضہ کرنے کے لئے ابھارنا۔ تَقَبَّضَ: جمع ہونا۔ الجلدُ فی النار: آگ میں کھال کا سکڑ جانا۔ ـــ علی الامرِ: پر توقف کرنا۔ ـــ الیه: پر کودنا۔ تَقَابَضَ المتبایعان: فروخت کنندہ کا قیمت وصول کرنا اور خریدار کا خریدی ہوئی چیز وصول کرنا۔ اِقْتَبَضَ قَبْضَةً مٹھی بھر لینا۔ ـــ منه المالَ: کو اپنے لئے لینا۔ اِنْقَبَضَ الشیئُ: سمٹنا، ملنا۔ ـ بطنُهُ: قبض ہونا۔ ـ فی حاجته: میں جلدی کرنا اور دامن سمیٹنا۔ ـ القومُ تیز چلنا۔ القَبَضُ (مص) تیز ہانکنا کہا جاتا ہے۔ صارَ المالُ فِیْ قَبَضِهِ: مال اس کی ملکیت میں ہو گیا۔ عند العروضیین لفظ کے پانچویں جگہ سے ساکن حرف کا حذف کر دینا جیسے فَعُوْلُنْ سے نون حذف کیا تو باقی فَعُوْلُ رہ گیا اس جزء کا نام مقبوض رکھا گیا۔ القَبَضُ: قبضہ کیا ہوا مال، سکڑنا، جلدی، تقسیم سے پہلے مال غنیمت۔ القُبْضَةُ: جس پر تو نے قبضہ کیا، مقبوضہ شئے۔ ـــ من الشیئِ: مٹھی بھر چیز۔ القَبْضَةُ: قَبَضَ کا اسم مرہ۔ مقبوضہ شئے (کہا جاتا ہے: صَارَ الشَّیئُ فِیْ قَبْضَتِهِ: مال اس کی ملکیت میں ہو گیا۔) موت ـ من الشیئِ: مٹھی بھر چیز۔ قُبْضَةُ السَّیْفِ: تلوار کا دستہ یا قبضہ۔ القُبَضَةُ: منتظم چرواہا کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ "قُبَضَةٌ رُفَضَةٌ: قبضہ کرنے والا اور جلدی چھوڑنے والا الامر۔ القَابِضُ (فا): تیز ہانکنے والا۔ من الادویة: قبض کرنے والی دوا۔ قَابِضُ الاَرْوَاحِ حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ القُبَاضُ و القُبَاضَةُ سکڑ جانا۔ جلدی۔ القَبَّاضُ و القَبَّاضَةُ: بہت سخت قبضہ کرنے والا، تیز ہانکنے والا۔ القَبِیْضُ: سکڑا ہوا، تیز، اپنے کام پر متوجہ عقلمند کاریگر۔ المِقْبَضُ و المَقْبَضُ و المَقْبِضُ و المِقْبَضَةُ و المَقْبَضَةُ و المَقْبُضَةُ: تلوار وغیرہ کا قبضہ ج مَقَابِضُ۔

۲۔ قَبَضَ ـ قَبْضًا یدَهُ عن الشیئِ: کو پکڑنے سے باز رہنا۔ ـــ ہ عن الامرِ: کو سے ہٹانا۔ الرجلُ عن القومِ: قوم کو چھوڑ دینا۔ تَقَبَّضَ الرجلُ من الامرِ: سے نفرت کرنا۔ اِنْقَبَضَ الرجلُ عن القومِ: کو چھوڑ دینا۔ القَابِضُ (فا) من الطعامِ: زبان پکڑنے والی خوراک۔

قَبَضَ ـِ قَبْضًا ہ / ب / علی: کو لینا، پکڑنا، ہتھیانا، زور سے پکڑنا، مٹھی میں لینا، دبانا، بھینچنا، چنگل میں لینا، کو قبضہ میں لینا، روکنا، قابو میں رکھنا۔ ـ علی: کو گرفتار کرنا۔ ـ ہ: کو وصول کرنا، جمع کرنا، سمیٹنا، سکیڑنا۔ ـ البطنَ: کو قبض کرنا (یعنی کسی کو قبض ہو جانا) ـ ہ: کو مایوس کرنا، ناامید کرنا، بے دل کرنا، کی ہمت توڑنا، کو بددل کرنا، افسردہ کرنا، دبانا، پست کرنا۔ قُبِضَتْ روحُهُ یا قُبِضَ: مرنا۔ قَبَضَ اللّٰهُ روحَهُ یا قَبَضَهُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو موت دینا، مارنا۔ قَبَضَ یدَهُ عن: کو کسی شخص یا چیز پکڑنے سے روکنا۔ قبض النفسَ / الصدرَ: کو دبانا، پست کرنا، بددل کرنا، افسردہ کرنا۔ قَبَّضَ ـہ: کو سمیٹنا، سکیڑنا۔ ـــ ـہ ـہ: کو کے قبضہ میں دینا۔ ـــ ـہ (قیمت) ادا کرنا۔ قَبَّضَ النفسَ، الصدرَ: کو دبانا، پست کرنا، بددل کرنا، افسردہ کرنا۔ تَقَبَّضَ: سکڑنا، سمٹنا، جھریاں پڑنا، قبض ہونا۔ اِنْقَبَضَ: سکڑنا، سمٹنا، جھریاں پڑنا، قبض ہونا، وصول ہونا۔ ـــ عن: سے کٹ جانا، منقبض ہونا۔ ـ و انقبض صدرُهُ: دبنا، افسردہ ہونا، ناامید ہونا، مایوس ہونا، شکستہ دل ہونا۔

قَبْض: پکڑنا، پکڑ، گرفت، قبضہ لینا، تھامنا، قبضہ کرنا۔ ـــ علی: کی گرفتاری۔ ـــ: (روپیہ) وصول کرنا، (روپیہ کی) وصولی، سکڑنا، سکیڑ، سمٹاؤ، قبض۔ القبضُ و الدَّفْعُ: آمد و خرچ آمدنیاں اور مصارف (اخراجات)۔ اَلْقَی القبضَ علی: کو گرفتار کرنا۔ قَبْضَة جمع قبضات: گرفت، پکڑ، قابو، قبضہ، مٹھی بھر، ۵، ۱۲ سینٹی

میٹر کا پیمانہ۔ جمع قِباض: موٹھ، قبضہ، دستہ۔ قبضۃ الید: مشت، مٹھی، مکا۔ فی قبضتہ: کے قبضہ میں، کے ہاتھوں میں، کے بس میں۔ فی قبضۃ ید: بمعنی بالا۔ وقع فی قبضتہ: کے قبضہ میں آجانا۔ قُبضۃ جمع قُبَض: مٹھی بھر۔ قِباضۃ (ٹیکس وغیرہ) کی فراہمی، ٹیکس لگانا، جمع کرنا۔ قبضای جمع قبضایات: مضبوط بازو (خصوصاً سیاستدانوں اور ممتاز شخصیتوں کا باڈی گارڈ۔ مَقبِض و مِقبَض جمع مقابِض: دستہ، موٹھ، قبضہ۔ مِقبَض جمع مقابِض: دستہ، موٹھ (چھڑی وغیرہ کی) تقابُض (کسی سامان تجارت اور اس کے ہم قیمت زر کا خریدار اور فروخت کنندہ کی طرف سے علی الترتیب) باہمی قبضہ میں لینا۔ انقباض: سکڑنا، سمٹنا۔ قبض (بیماری) کوفت، (ذہنی) اذیت، افسردگی، اداسی انقباض الصدر: بمعنی بالا۔ قابض: قبض کن، پریشان کن، وصول کنندہ، شکنجہ، چمٹا، پکڑنے یا تھامنے کا آلہ۔ جمع قابضون و قُبّاض (ٹیکس) کلکٹر۔ عَضلۃ قابضۃ: عضو کو جھکانے اور موڑنے والا پٹھا۔ قابض علی الامر: حاکم، فرمانروا۔ مَقبوض علیہ: زیر حراست شخص۔ مقبوضات و مقابیض: حکومت کا مالیہ، مال گزاری، آمدنی مُنقَبِض: پریشان، مایوس، ناامید، بے دل، افسردہ، افسردہ دل، سرنگوں، گومگو کی حالت میں۔ مُنقبض النفس (الصدر): بمعنی بالا۔

قبط: قَبَطَ ـُ قَبطًا الشیئَ: کو ہاتھ سے جمع کرنا، ملانا۔ قَبَّطَ وجہَہُ: ترش روئی کرنا، منہ بگاڑنا۔ القُبّاط والقُبَّیط والقُبَّیطی والقُبَّیطاء: ایک قسم کی مٹھائی، ریوڑی۔

۲۔ قَبَطَ ـُ قبطًا الولدُ عند العامۃ: بچہ کا ڈر کر بھاگنا (سریانیہ)۔ القَبُّوط (ح) ٹڈی (عامیہ)

۳۔ القِبط والقُبط او الاقباط واحد قِبطی: مصر میں نصرانیوں کی ایک جماعت۔ القُبطیۃ والقِبطیۃ ج القَباطیّ والقَباطی: کتان کا کپڑا جو قبط کی طرف منسوب ہے۔

○ قَبَّطَ وجہَہُ: بھویں سکیڑنا، تیوری چڑھانا، قہر آلود نگاہیں ڈالنا، کڑے تیوروں سے دیکھنا۔ القِبط والقبط جمع الاقباط: قبطی لوگ۔ قِبطی و قُبطی: قبطی۔ قُبطان جمع قَباطین و قَباطِنۃ: کپتان (جہاز کا) کپتان (ایک فوجی عہدہ دار)۔

قبع: قَبَعَ ـَ قُبوعًا القنفذُ: سیہی کا اپنے کھال میں سر چھپانا۔ رأسَہُ: سر کو کپڑے میں داخل کرنا۔ الرجلُ فی قمیصہ: گریبان میں سرڈالنا۔ ـ فی الارض: میں جانا۔ قبع قبعًا الجوالقَ: گون کے کنارے موڑنا۔ قبع قَبعًا و قُبوعًا النجمُ: ستارے کا ظاہر ہو کر چھپ جانا۔ ت المرأۃُ: عورت کا چھپنا۔ ـ فی منزلہ: گھر میں چھپنا۔ صفت قابع ج قُبَّع۔ قَبَعَ قَبعًا و قِباعًا و قُباعًا و اقتبع المزادۃَ: مشک کے منہ سے منہ لگا کر پینا۔ انقَبَعَ الرجلُ: سر کا کپڑے میں داخل کرنا۔ الطائرُ فی وکرہ: پرندے کا گھونسلے میں داخل ہونا۔ القُبَّع: بگل، عوام کے نزدیک، سر کا رومال یا ٹوپی ہے۔ قبوعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سریانی لفظ قبع سے ماخوذ ہے۔ القُبَعُ والقُباعُ (ح) سیپی، ایک قسم کا دریائی جانور۔ القُبَعَۃ (ح): ایک چھوٹا سا پرندہ جب اسے پتھر وغیرہ سے ڈرایا جائے تو ڈرتے ہوئے بھاگ کر بل میں داخل ہو جاتا ہے۔ القُبَّعۃ: بچوں کی ایک قسم کی ٹوپی، ٹوپی۔ القَبیعَۃ من السیف: تلوار کے دستہ پر چاندی یا لوہے کی گرہ۔

۲۔ قَبَعَ ـ قَبعًا و قِباعًا و قُباعًا الخنزیرُ: سور کا غرانا۔ ـ الفیلُ: ہاتھی کا چنگھاڑنا۔ القَبّاعُ: خنزیر۔ القَبیعَۃُ والقُنبُعَۃ: سور کی ناک کا بانسہ۔

۳۔ قَبَعَ ـ قَبعًا و قُبوعًا عن اصحابہ: پیچھے رہ جانا کرنا۔ ـ الرجلُ: جھکنا، ہانپنا۔ القَبّاعُ: بزدل۔ القَوابعُ: گھوڑ دوڑ میں پیچھے رہے ہوئے گھوڑے۔

۴۔ قَبَعَ ـ قَبعًا الشیئَ عند العامۃ: اکھیڑنا، کھینچنا (سریانیہ) انقَبَعَ الشیئُ: اکھڑنا (عامیہ)

۵۔ القُباع: بیوقوف مرد، ایک بڑا پیمانہ کہا جاتا ہے یا ابنَ قابعاء و یا ابنَ قَبعَۃ یعنی اے احمق القُباعیّ: بڑے سر والا امرد

۶۔ القَبَعثَری و القَبَعثَر ج قَباعِثُ: بہت بڑا (ح) بڑا اونٹ۔

قبق: ۱۔ قَبقَبَ قَبقَبَۃً الفحلُ: بڑبڑانا۔ القَبقَبُ: پیٹ۔ القَبقَبَۃُ (مص) گھوڑے کے پیٹ کی آواز۔ القَبقاب ج قَباقِیبُ: کھڑاؤں۔

۲۔ قَبقَبَ قَبقَبَۃً الرجلُ: بے وقوف ہونا۔ القَبقابُ و القُباقِبُ: بہت بولنے والا۔ بک بک کرنے والا۔ جھوٹا، سخت آدمی۔

۳۔ القُباقِبُ: آئندہ تیسرا سال کہا جاتا ہے۔ انک لا تفلح العام والا القابل ولا القُباقِبَ: یعنی نہ تم اس سال کامیاب ہو گے نہ آئندہ سال اور نہ تیسرے سال۔ القَیقَبُ (ح) دریائی سیپی۔

○ قَبَعَ ـ قبوعًا: (خارپشت، سیہی کا) اپنا سر اندر کھینچ لینا، سکیڑ لینا، سمیٹ لینا، بیٹھنا، دبکنا، گھات میں بیٹھنا۔ ـ قبعًا و قِباعًا و قُباعًا: (سور کا) غرانا (ہاتھی کا) چنگھاڑنا۔ قُبَّعۃ ج قُبَّعات: ہیٹ، ٹوپی، نمدے کی چھوٹی ٹوپی۔ مُقبَّع: ہیٹ پہنے ہوئے، سر پر ہیٹ رکھے ہوئے۔

○ قَبقَبَ: ابھرنا، پھونا۔ قَبقاب جمع قَباقیب: لکڑی کی کھڑاویں۔ قَبقابُ الانزلاق: برفانی کھڑاؤں (Skate) مِسمارٌ قَباقیبی: چھوٹا کیل، نیلا کوکا۔

قبل: ۱۔ قَبِلَ ـُ قَبلًا علی الشیئِ: کو شروع کرنا اور اس سے جدا نہ ہونا، میں مشغول ہونا۔ قَبَلَ ـِ قَبالۃً بہ: کا کفیل و ضامن ہونا۔ قَبُلَ ـُ قَبالۃً بہ: کا کفیل وضامن ہونا۔ قَبَّلَ العاملَ العملَ: مزدور سے کام کا عہد لینا، اسم قَبالۃ۔ اَقبَلَ علی الشیئِ: میں مشغول ہونا۔ تَقَبَّلَ العملَ: کام کی ذمہ داری اٹھانا۔ القِبَلُ: طاقت، قدرت، جیسے مالی بہ قِبَل: مجھے اس کی طاقت نہیں۔ کہا جاتا ہے۔ لی قِبَلَ فلانٍ دَینٌ: میرا فلاں کے پاس قرض ہے۔ القُبُلۃُ ج قُبَل: کفالت۔ القبالۃ (مص) ضمانت، عہد (کام یا قرض وغیرہ کا) القَبیلُ ج قُبُلٌ و قُبَلاءُ: ضامن، کفیل۔

۲۔ قَبَلَ ـُ قَبلًا المکانَ: کی طرف متوجہ ہونا کہا جاتا ہے۔ قَبَلَتِ الماشیۃُ الوادیَ: جانور وادی کی جانب متوجہ ہوئے۔ الیومُ: دن کا قریب ہونا۔ ـــ الرجلُ: آنکھوں میں کجی والا ہونا۔ قَبِلَ قَبَلًا وقُبولًا ت ریحُ القَبول: پروائی ہوا چلنا۔ قَبِلَ ـَ قَبَلًا الرجلُ: بھینگی نظر والا ہونا۔ قُبِلَ القومُ: کو پروائی ہوا لگنا۔ قابَلَ ہ: کے سامنے ہونا۔ الشیئَ بالشیئِ: مقابلہ کے لئے دو چیزوں کو آمنے سامنے کرنا۔ اَقبَلَ الیومُ: دن کا قریب ہونا۔ ـ الیہ: کے پاس آنا۔ ـ علیہ: کی طرف متوجہ ہونا۔ ـ القومَ: کو پروائی ہوا لگنا۔ ـ ت الارضُ بالنباتِ: زمین میں نباتات کا بڑھنا۔ ـ فلانًا الشیئَ: کو کے آگے کرنا، کہا جاتا ہے۔ اقبلتُ زیدًا مرۃً وادبرتہ: یعنی چلنے میں زید کو کبھی آگے کیا، کبھی پیچھے کیا۔ اور کہا جاتا ہے۔ اِذہَب بہ فاقبِلہُ الطریقَ: اس کو لے جاؤ، راستہ بتلاؤ اور سامنے کر لو۔ ـ الزرعُ و نحوُہُ: کھیتی وغیرہ میں بکثرت غلہ ہونا صفت۔ مُقبِل مونث مُقبِلۃ (عامیہ)۔ تقبَّلَ اباہ: باپ کے مشابہ ہونا۔ تَقابَلَ الرجلانِ: ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ اِقتَبَلَ الامرَ: کام از سر نو کرنا۔ اِقبَلَ اِقبِلالًا و اِقبالَ اِقبیلالًا: ـ ت عینُہُ: کی نگاہ کا بھینگا ہونا۔ اِستَقبَلَ الرجلَ: کی طرف توجہ کرنا۔ کی طرف رخ کرنا ـ الشیئَ: کے مقابل ہونا، کے سامنے ہونا۔ ـ

الرجُلَ: کے مقابل ہونا، کی طرف منہ کرنا۔ القابِلُ (فا) ح قَبَلَۃَ: آئندہ سال۔ القَابِلَۃُ ج قَوَابِلُ وقَابِلاتٌ: آنے والی رات۔ قَوَابِلُ الامرِ: شروعات کہا جاتا ہے۔ اخذت الامر من قوابلہ: یعنی میں نے کام کو اس کے شروعات سے لیا۔ القُبُلُ والقُبُلُ ح اقْبَال: اگلا حصہ۔ من الزمان: ابتدائی زمانہ کہا جاتا ہے۔ اقْبَلَ قُبُلَہٗ یعنی اس نے اس کا قصد کیا، کہا جاتا ہے۔ رایتُہٗ قُبُلاً: یعنی میں نے اس کو ظاہر طور پر سامنے دیکھا، کہا جاتا ہے۔ رأیتُہٗ قُبُلاً وقَبَلِیًّا: یعنی میں نے اس کو ظاہر طور پر سامنے دیکھا۔ القَبَلُ (مص): سامنے کی بالائی زمین، بکری کے سینگوں کا چہرے پر ہونا (کہا جاتا ہے: حَيَّا اللّٰہُ قَبَلَہٗ: اللہ باقی رکھے اس چیز کو اس سے پہلے نظر آئے) ہر چیز جو پہلے نظر آئے، واضح راستہ، ہاتھی دانت وغیرہ کا گول تعویذ جو عورت اور گھوڑے کے سینہ پر لٹکایا جاتا ہے۔ فی العین آنکھ کی سیاہی کا ناک کی طرف جھکنا۔ — فی العینین: ہر ایک آنکھ کی نگاہ کا ایک دوسرے کی طرف جھکنا، کہا جاتا ہے۔ رَأَیْتُہٗ قَبَلاً: میں نے اسے صاف سامنے دیکھا۔ کہا جاتا ہے اَتانی من قبلہ: وہ میرے پاس اس کے ہاں یا طرف سے آیا۔ رأیتُہٗ قِبَلاً: میں نے اسے صاف سامنے دیکھا القَبَلَۃُ ج قَبَلٌ والقُبْلَۃُ والقَبْلَۃُ: ایک قسم کا مہرہ جس کو جادوگرنی استعمال کرتی ہے اور اس سے جادو کرتی ہے۔ القِبْلَۃُ قبل کا اسم نوع، جہت، اسی سے ہے قِبْلَۃُ المُصَلِّی: جہت جدھر نماز پڑھی جاتی ہے، جس چیز کا سامنا کیا جائے، کہا جاتا ہے۔ مَالَہٗ فی ھٰذا الامرِ قِبْلَۃٌ ولادِبْرَۃٌ: اس کیلئے اس معاملہ میں آگا پیچھا نہیں یعنی نہیں جانتا کہ کہاں سے پکڑے، اور کہا جاتا ہے اجعلو بیوتکم قِبْلَۃً اپنے مکانوں کو آمنے سامنے کرو۔ القِبَالُ من النعل: تسمہ، کہا جاتا ہے رجل منقطعُ القِبَال: مرد بدرائے، کہا جاتا ہے جلس قُبَالَتَہٗ: وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ الاَقْبَلُ مونث قَبْلاءُ ج قُبْلٌ: وہ شخص جس کی آنکھوں میں بھینگا پن ہو۔ — رَجُلٌ اَقْبَلُ: ناک کی جانب دیکھنے والا مرد۔ القَبُوْلُ (مص): عافیت اور نعمت وغیرہ کا آنا، اچھی ہیئت، باد صبا۔ القَبِیْلُ: خدا کی اطاعت (دَبِیْرٌ: خدا کی نافرمانی) کہا جاتا ہے مَایعرف قبیلا من دبیر: وہ آنے جانے والے کو نہیں پہچانتا، کہا جاتا ہے مِنْ قبیل ذالك: اس کی جہت سے اور کہا جاتا ہے رأیتہ قبیلا: میں نے اس کو صاف صاف سامنے دیکھا۔ جمع قُبُل و قُبَلاء: شوہر تَقَابُل: اسے استقبال بھی کہا جاتا ہے استقبالُ ومُقابلۃُ القمرِ (اوسیّارۃ) والشمس (فلك): زمین کا چاند (یا سیارۃ) اور سورج کے درمیان ہونا اور جب چاند سورج کے سامنے آجاتا ہے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ الاِسْتِقْبَالُ (مص) من الزمان: حال کے بعد آنے والا زمانہ۔ الرَّجُلُ المُقابَلُ (مفع): ماں باپ کی طرف سے شریف مرد، کہا جاتا ہے۔ رجل مُقابَلٌ مُدابَرٌ نجیب الطرفین مرد۔ رجل مُقْتَبَلُ الشباب: نوجوان مرد جس میں بڑھاپے کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ المُسْتَقْبِلُ (فا) والمستقبَلُ من الزمان: آئندہ زمانہ۔

۳۔ قَبِلَ۔ قَبُوْلًا و قُبُوْلًا الکلامَ: کی تصدیق کرنا۔ — الشیئَ: کو لینا۔ قَبِلَ قِبَالَۃً ت المرأۃ: عورت کا دائی جنائی ہونا۔ ت القابلۃُ الولدَ: بچہ کی دایہ گری کرنا۔ تَقَبَّلَ ہٗ: کو لینا۔ اللّٰہُ دعاءَہٗ: کی دعا قبول کرنا۔ — تہُ السعادۃُ: میں نیک بختی ظاہر ہونا۔ القَابِلُ ج قَبَلَۃٌ: آمادہ قبول، متاثر۔ القَابِلَۃُ ح قَوَابِلُ و قَابِلاتٌ: قابل کی مونث۔ دائی جنائی۔ القَابِلِیَّۃُ: قبول اور تاثر کی آمادگی کی حالت۔ — (طب): کھانا کھانے کو جی چاہنا۔ القَبَلُ: دایہ کی بچہ جنانے کی لطیف تدبیر۔ القَبُوْلُ: دائی جنائی۔ القبیل من النساء: دائی جنائی۔ المُقَبَّلُ مقبول (مفع)۔

۴۔ قَبَّلَ ہٗ: کو بوسہ دینا۔ تہُ الحمّٰی: بخار کی وجہ سے ہونٹوں پر دانے نکل آنا۔ القُبْلَۃُ ج قُبَلٌ: بوسہ۔

۵۔ اِقْتَبَلَ الکلام: فی البدیہہ کہنا۔ القَبَلُ: فی البدیہہ کلام کہنا۔

۶۔ اِقْتَبَلَ الرجُلُ: بے وقوفی کے بعد عقلمند ہونا۔

۷۔ قَبْلَ: پہلے، آگے یہ ظرف زمان ہے کبھی معرب ہوتا ہے جیسے مَاتَ الخلیفۃُ و مات الوزیر قبلَہٗ و من قبلِہٖ، کبھی مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، اگر نیت میں ہو تو مبنی علی الضم ہوتا جیسے مات الخلیفۃُ ومات الوزیرُ قَبْلُ و مِن قَبْلُ اور اگر مضاف الیہ نہ لفظوں میں ہو نہ نیت میں ہو تو معرب جیسے مات الخلیفۃُ و مات الوزیر قبلاً و من قبلٍ و من قبلِ قُبَیْلُ: قَبْلُ کی تصغیر کہا جاتا ہے۔ جاءَ فلان قُبَیلَ العصر: یعنی فلاں عصر سے کچھ پہلے آیا۔ القُبُلُ والقُبُلُ من الجبل ج اَقْبَال: دامن کوہ۔ القَبِیْلُ ج قُبُلٌ و قُبَلاءُ: تین یا زائد کی جماعت۔ القَبِیْلَۃُ ج قَبَائِلُ: ایک باپ کے بیٹے، کنویں کے من کا پتھر، چڑے کا ہر ایک ٹکڑا۔ — قَبَائِلُ الرَّأسِ: سر کی ہڈی کے ٹکڑے بعض بعض سے ملے ہوئے۔ قَبَائِلُ الطَّیرِ: پرندوں کی قسمیں قبائلُ الشجرۃ: درخت کی شاخیں۔ قَبَائِلُ الثَّوْبِ: کپڑے کے ٹکڑے۔ المُقَبَّلُ من الثیاب: پیوند لگا ہوا کپڑا۔

○ قَبِلَ — قَبُوْلًا و قُبُوْلًا ہٗ/ ھ/ ب: کو قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ — ہٗ: کا مہمان نوازی سے استقبال کرنا۔ ہٗ/ ھ: کا خیر مقدم کرنا، کو پسند کرنا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا۔ — ھ: پر متفق ہونا، کو برداشت کرنا، — ھ/ ب: سے متفق ہونا۔ — ہٗ/ ھ فی: کو میں داخل کرنا۔ — مِن: کا حکم ماننا، کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک جانا، کی اطاعت اختیار کرنا۔ قَبِلَ — وقَبَلَ — قَبَالَۃً ب: کی ضمانت دینا، کا ذمہ دار ہونا، کا ضامن ہونا۔ قَبِلَ الذھابَ مَعِیَ: وہ میرے ساتھ جانے پر رضامند تھا۔ داءٌ یقبلُ الشفاءَ: قابل علاج مرض، بضائع تقبلُ الالتھابَ: (انتہائی) آتش گیر تجارتی مال۔ اثمانٌ لاتقبلُ المزاحمۃَ: مسابقت کی طاقت سے باہر قیمتیں۔ قبل شکًّا: بادل نخواستہ شک کو تسلیم کرنا۔ قَبَّلَ ہٗ/ ھ: کو چومنا۔ — جنوب یا جنوبی طرف جانا۔ قَابَلَ ہٗ/ ھ: کے بالکل سامنے ہونا یا کے بالکل سامنے کھڑا ہونا، کے آمنے سامنے ہونا۔ — ہٗ: کا سامنا کرنا، سے مزاحم ہونا، — ھ ب: (صورت حال) کا (ہوشیاری) کے ساتھ سامنا کرنا۔ — ہٗ: سے ملنا، ملاقات کرنا۔ — ھ ب: (خطرہ) کا کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ — ہٗ: سے مڈبھیڑ ہونا، اتفاقی ملاقات ہونا، سے ملاقات کو آنا جانا، سے ملاقات کرنا، سے بات چیت کرنا، انٹرویو کرنا (رسمی ملاقات میں) کا استقبال کرنا۔ کو شرف باریابی دینا۔ — ہٗ/ ھ ب کا (خبر، خوشی) سے استقبال کرنا۔ — ھ ب کو کے ساتھ واپس کرنا، چکانا، ادا کرنا، کا سے بدلہ دینا، — ھ ب/ علی: کا سے مقابلہ کرنا، کتاب کے نسخوں کا سے مقابلہ کرنا۔ قابَلَہٗ علی الرحب و السعۃ: کسی شخص یا چیز کا خیر مقدم کرنا۔ قابَلَہٗ بالمِثْلِ: سے ادلے کا بدلہ لینا کو ترکی بترکی جواب دینا، کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا، سے بدلہ لینا۔ اَقْبَلَ علی: کسی شخص یا جگہ کے قریب آنا، قریب ہونا، کے پاس آنا، کی طرف بڑھنا، پیش قدمی کرنا، کا رخ کرنا، کی طرف توجہ کرنا، میں مشغول ہونا، کسی شخص یا چیز کی طرف توجہ دینا، اپنے آپ کو کی نذر کرنا، کے لئے وقف کرنا، مخصوص کرنا، کسی کام میں لگ جانا، یا اس کا آغاز کرنا، کسی کام کو تن دہی سے کرنا، کسی کام میں مشغول رہنا، لگا رہنا، میں دلچسپی لینا، کے پاس جانا یا آنا۔ —: فصل کا باافراط ہونا، آگے بڑھنا۔ اقبل یفعل: کچھ کرنے

لگنا۔ اقبل علیه الدهرُ یا اقبلت علیه الدنیا: وہ خوش قسمت ہے، خوش بختی، اس کو پسند کرتی ہے۔ تَقَبَّلَ ہ: کو قبول کرنا، وصول کرنا۔ ــــ دعاءَ ہ: اللّٰہ تعالیٰ کا کسی کی دعا کو سننا یا منظور کرنا۔ تَقَابَلَ: ایک دوسرے کے مقابل ہونا، آمنے سامنے ہونا، دو شخصوں کا آپس میں ملنا۔ مع: سے ملاقات کرنا۔ مقابلہ کیا جانا، مقابلہ ہونا۔ اِقتبل ہ/ ہ: کو پانا۔ ــــ ہ: کو خوشی سے تندہی کے ساتھ کرنا۔ اِستَقبَلَ ہ/ ہ: کی طرف منہ کرنا۔ رخ کرنا، سے ملنا، کو ملنے جانا۔ ــــ ہ/ ہ: کا سامنا کرنا۔ ــــ ہ: کو ذمے لینا، ہاتھ میں لینا، کی ذمہ داری یا کا بوجھ اٹھانا۔ ہ: ملنے آنے والے یا مہمان کا استقبال کرنا۔ (ریڈیو) سننا۔ قَبلُ یا من قبلُ و قَبلاً: پہلے، قبل ازیں۔ مِن ذی قبلُ، عن ذی قبلُ: پہلے کے مقابلہ میں۔ قَبلَ: سے پہلے قَبلَ کُلِّ شیٍ: سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر یہ کہ۔ مِنْ قبلِ: سے پہلے۔ قَبلَ ان: سے پہلے۔ قَبلَئِذٍ: پہلے، ایک موقع پر، ایک زمانہ میں، اگلے وقتوں میں، سابق میں۔ قُبَیلَ: سے کچھ پہلے۔ قُبَیلَ ان: سے کچھ پہلے۔ قُبل و قُبُل: اگلا حصہ، ماتھا، پیشانی۔ مِنْ قُبُلٍ: سامنے، سامنے سے۔ قِبَل: طاقت، قوت، قابلیت۔ قِبَلَ: کی موجودگی میں، کے سامنے، کے قریب، کے رخ، کی طرف۔ لاقِبَلَ لہُ بہ: یہ اس کے بس میں نہیں۔ وہ اس کو پورا کرنے کے قابل نہیں۔ مِنْ قِبَلِ: کی طرف سے، کی جانب سے، کی وساطت سے، کے ذریعے سے۔ مِنْ قِبَلِ نفسہ: خود اس کی طرف سے، خود اس سے۔ لِی قِبَلَهُ دَیْنٌ: وہ میرا مقروض ہے۔ قُبلَة جمع قُبُلات و قُبلات و قُبَل: بوسہ۔ قِبلَة: قبلہ، کعبہ جس کی طرف نماز میں مسلمان رخ کرتے ہیں۔ مسجد میں قبلہ رخ گوشہ، طاق صلوٰۃ۔ اُولَی القِبلَتَین: دو قبلوں میں سے پہلا قبلہ (یروشلم، بیت المقدس) قِبلَةُ الانظار: مرکز نگاہ، نگاہوں کا ہدف، نصب العین، مقصد زندگی۔ قِبلَةُ الاهتمام: مرکز توجہ، وسیع و عریض دلچسپی کا مرکز۔ قِبلی: جنوبی۔ الوجهُ القبلی: بالائی مصر۔ قَبول و قُبول: (دوستانہ) استقبال، خوش آمدید، منظوری، یکدلی، رضامندی، داخلہ، عَدمُ قُبولِ التفرقة: سالمیت، ناقابل تقسیم ہونا۔ قَبیل: ذمہ دار، کفیل، ضامن، قسم، صنف، نوع، قبیلہ۔ مِنْ هذا القبیل: اس قسم کا، اس جیسا، ایسا، اس پہلو سے۔ مِنْ قَبیلِ الایضاح: تشریح کے طور پر، بطور مثال۔ مِنْ کُلِّ قَبیلٍ و دَبیر: ہر منبع کا۔ لَیسَ مِن هذا الامر فی قَبیلٍ

و لادبیر: وہ کم از کم اس معاملہ میں ملوث نہیں ہے، اس کا اس معاملہ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ قَبیلة جمع قَبائل: قبیلہ، قَبَلی۔ قَبائلی (قبیلہ کا، قبیلہ کے متعلق) قَبالَة: ذمہ داری، کفالت، ضمانت، معاہدہ۔ تَقبیل: چومنا، بوسہ لینا، قِبالَ: کے مقابل، کے سامنے، کے بالمقابل، دوبدو۔ مُقابَلَة: مڈبھیڑ، مقابلہ، اتفاقی ملاقات، ملاقات، بات چیت، گفت و شنید، بحث مباحثہ، انٹرویو، باریابی، رسمی ملاقات، استقبال، موازنہ۔ مُقابَلَةَ ذلك یا فی مقابلةِ ذلك: کے بدلے، کے عوض، کے مبادلہ میں، کی تلافی میں، کی ہم قیمت کے طور پر، کے لئے تشریحُ المقابلة: تقابلی تشریح (الاعضاء)۔ المقابلة بالمثلِ: بدلہ، پاداش، انتقام، انتقامی کارروائی۔ اَخذَ بالمقابلة: ادلے کا بدلہ لینا، ترکی بترکی جواب دینا۔ اِقبال: قریب آنا، آگے بڑھنا، گفت و شنید، ملاقات، آنا، آمد۔ علی: کی طرف مڑنا، متوجہ ہونا، کو تندہی سے کرنا، کا جوابی اقدام، کی اثر پذیری، میں دلچسپی۔ ــــ طلب، مانگ، اچھی قسمت، بہبود، خوشحالی، اِقبالاً و ادباراً: آگے اور پیچھے، ادھر ادھر، اوپر نیچے۔ تَقَبُّل: اخذ کرنے کے استعداد، اثر پذیری، قابلیت، احساس، اقتبال: استقبال۔ استقبال جمع استقبالات: استقبال، پورا چاند، مستقبل۔ استقبالاً: مستقبل میں، آئندہ، آلةُ الاستقبال: ریسور (Receiver)۔ غرفةُ الاستقبال: استقبالیہ کمرہ، ملاقات کا کمرہ، دیوان خانہ، بیٹھک، کان فی اِستقبالہ: وہ اس کے خیر مقدم کیلئے موجود تھا، وہ اسے ملنے آیا تھا، اس نے اس کا استقبال کیا۔ قابِل: وضع حمل کا ماہر طبیب، آنے والا، آئندہ (ماہ وغیرہ)۔ ــ ل: کا امکان رکھنے والا، کا مستوجب، سے اثر پذیر، پر آمادہ، رضامند، تیار۔ ــــ ریسور (ریڈیو) قابلٌ للموت: فانی۔ قابلٌ للشفاء: قابل علاج۔ قابل للالتهاب: آتش گیر، بھڑک اٹھنے والا، قابلٌ للتوصیل: قابل ایصال (برقیات) غیرُ قابلٍ للرجوع: ناقابل تنسیخ، ناقابل واپسی، یکون جوازُ السفر قابلاً للتجدید اربع مرّات: پاسپورٹ چار بار تجدید کروایا جاسکتا ہے۔ قابلة جمع قابلات و قوابل: دائی، جنائی، جمع قوابل: ظرف، برتن، وہ چیز جس میں کچھ رکھا جائے جمع قَوابل: شروعات۔ قابلیّة: صلاحیت، استعداد، طاقت، گنجائش، وسعت، قابلیت، مناسبت، موزونیت، رجحان، شوق، میلان۔ ــ ل: کی طرف رجحان، میلان، کی ذمہ داری، سے اثر پذیری،

کا احساس، قابلیةٌ للتوصیل: ایصالیت قابلیة القِسمَة: تقسیم پذیری۔ مَقبُول: قابل قبول، معقول، تسلی بخش، خوشگوار، بامروت، خلیق، ملنسار، خوش خلق، بہت پسندیدہ، مرغوب، پسند خاطر، ہر دل عزیز، جس کا خیر مقدم کیا جائے۔ مُقبِلات: اشتہاء انگیز اشیاء۔ مُقابِل: سامنے، بالمقابل، الٹا، الٹ، جوابی، الزامی، ہم قیمت چیز، تنخواہ، معاوضہ، صلہ، جزا، اجرت، تلافی، مُقابلَ ذلك یا فی مقابلِ ذلك: بدیں وجہ، کے مطابق، کے بدلے، کے عوض، کے مبادلہ میں، کے معاوضہ میں، کے ہم قیمت کے طور پر، کے لئے، مقابلَ تقدیم الکوبون: کوپن پیش کرنے پر۔ مائة سفینةٍ مقابلَ خمسین فی العام السابق: گزشتہ سال ۵۰ بحری جہازوں کے مقابلہ میں ۱۰۰ بحری جہاز۔ بدون مقابلٍ یا مِن غیرِ مقابلٍ: بلا معاوضہ، مفت، مُقبِل: آنے والا، آئندہ (ماہ، سال وغیرہ) فی مُقتَبَلِ العمر: عنوان شباب میں مُقتَبَلَ اللیل: رات کے شروع میں، رات ہوتے ہی مُستَقبِل: ریسور، ریسونگ، سیٹ۔ مُستَقبَل: سامنے کا حصہ، ماتھا، مستقبل کا، مستقبل کے متعلق۔ مستقبل (آئندہ زمانہ)

قبن: ا۔ قَبَنَ ــ قُبُونًا الرجلُ: ملک میں جانا۔ اَقبَنَ: دشمن سے شکست کھانا، بے خوف تیز دوڑنا۔ القُبنَةُ: ضروریات میں بھاگ دوڑ۔ القَبِین: تیز رو۔

۲۔ قَبَّنَ الشیئَ: کو قبان سے تولنا۔ ہُ بیدیہ: کو ہاتھ سے تولنا، جانچنا القَبّان: بھاری چیزوں کو تولنے کا کنڈا یہ لفظ ترکی زبان کے کپان کا معرب ہے۔ القَبّانِیُّ: بھاری چیزوں کو تولنے والا۔ القِبانَة: تولنے کا پیشہ۔ القُبُونَة: تولنے کا کام۔

۳۔ القَبِین: اپنے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنے والا مرد۔

○ قَبَّنَ ہ: آہنی ترازو پر تولنا۔ قَبّان: آہنی ترازو، ترازو کی ڈنڈی، گاڑیاں تولنے کا پل یا پلیٹ فارم۔

قبو: قَبا۔ قَبْوًا البناءَ: عمارت کو بلند کرنا یا گنبد نما بنانا۔ قَبا۔ قَبْوًا الشیئَ: کسی چیز کو کمان جیسا کرنا۔

قَبّی تَقبیَةً ہُ عن الارض: (عمارت) کو تھوڑا سا اونچا کرنا (عامیہ)۔ تَقَبّی الشیئُ: گنبد جیسا ہونا۔ القَبْو: کچھی ہوئی عمارت۔ القَبوَة: قَباسے اسم مرہ، (ب) مستطیل شکل کا چھوٹا قبہ، پانی کے اوپر سے گزرنے کے لئے پل نما چیز۔

۲۔ قَبا ــ قَبْوًا الزعفران: زعفران توڑنا اور جمع کرنا۔ ــ الشیئَ: کسی چیز کو انگلیوں سے جمع کرنا۔ قَبا قَبْوًا الحرفَ: کو ملانا۔ قَبّی تَقبیَةً المتاعَ: سامان مہیا

کرنا۔ الثوبَ: کپڑے کو قبا بنانا۔ تَقَبَّی القباءَ: قبا پہننا۔ اِقْتَبَی المتاعَ: سامان مہیا کرنا۔ القباءُ ج اَقْبِیَۃٌ: ایک کپڑا جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ یہ گویا قبا الحرف (ملنا ملانا) سے مشتق ہے مولدون اسے قنباز کا نام دیتے ہیں عوام کے نزدیک یہ شیئ قبا (الف مقصورہ کے ساتھ) بمعنی تنگی چیز ہے۔ القَبْوَۃُ: دونوں ہونٹوں کا ملنا۔ المَقْبُوُّ (مفع) جمع کیا ہوا، ملا ہوا۔ المُقْبِیُّ: بہت چربی والا۔

۳- قَبَّی تَقْبِیَۃً علی فلان: پر ظلم کرنا۔ تَقَبَّی الرجُلَ: کے پاس پیچھے سے آنا۔ اِنْقَبَی عنه: سے پوشیدہ ہونا۔

۴- القابُ و القِباءُ: مقدار کہا جاتا ہے۔ بینهما قباءُ قوسین و قابُ قوسین: دونوں کے مابین دو کمانوں جتنی مقدار ہے قریب سے کنایہ۔

قبی: القَبِیُّ: مقدار۔ القَبایَۃُ: بیابان۔

○ قَبْو جمع اَقْبِیَۃ: قبہ، گنبد، محراب دار چھت، تہ خانہ، سرنگ، گیلری، زیر زمین راستہ، کان میں افقی راستہ۔ قبو الوقایة مِن الغارات الجوّیة: ہوائی حملہ سے بچنے کی پناہ گاہ۔ قَبْوَۃ: قبہ، گنبد محراب دار، چھت، قِباء: فاصلہ۔ قَبا ـُ قَبْواً ہ: کو محراب نما گنبد بنانا، پر محراب دار چھت بنانا، کو محراب بنانا، پر ڈاٹ لگانا۔ کو موڑنا، جھکانا۔ قبودّان: کپتان۔

قت: ۱- قَتَّ ـُ قَتًّا: جھوٹ بولنا۔ ـــ الشیئَ: کسی چیز کو مہیا کرنا۔ ـــ الی فلان وقَتَّ اثر فلان: ارادہ معلوم کرنے کے لئے کسی کے پیچھے پوشیدہ طور پر جانا۔ وقَتَّ الاحادیثَ: سخن چینی کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ هو یَقُتُّ الحدیثَ: وہ باتوں میں تزویر و تحسین پیدا کرتا ہے۔ تَقَتَّتَ الحدیثَ: بات کے پیچھے پڑنا، کان لگانا۔ القَتُّ (مص): تیار یا تیار کیا ہوا جھوٹ۔ القَتّاتُ و القَتُوتُ: چغل خور، بقول بعض لوگوں کی بے خبری میں ان کی باتیں سننے والا خواہ آگے پھیلائے یا نہ پھیلائے۔ اِمْرَأَۃٌ قَتّاتَۃٌ و قَتُوتٌ: چغل خور عورت۔ القِتِّیْتَی: چغلی۔ رَجُلٌ قِتِّیْتَی: چغل خور۔ قَوْلٌ مُقَتَّتٌ و مَقْتُوتٌ: جھوٹا قول۔

۲- قَتَّ ـُ قَتًّا الشیئَ: کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا جمع کرنا، کم کرنا۔ قَتَّتَ الافاویہ: مسالے وغیرہ ہانڈی میں ڈالنا اور پکانا۔ القَتُّ (ن): اسپست یا خشک اسپست، واحد قَتَّۃٌ: ایک قسم کا جنگلی دانہ ہے جس کو دیہاتی لوگ کوٹنے اور پکانے کے بعد کھاتے ہیں۔ القَتاتُ (ن) ایک قسم کی نباتات۔ زَیْتٌ مُقَتَّتٌ: ایک تیل جس میں مختلف خوشبوئیں پکاتے ہیں یا خوشبودار تیل ملاتے ہیں۔

۳- قَتَّ ـُ قَتًّا الثوبَ: کپڑے کو لمبائی میں کاٹنا۔ اِقْتَتَّ الشیئَ: کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑنا۔

○ قَتَّ ـُ قَتًّا ہ: کے متعلق غلط بیانی کرنا، کو خلاف واقعہ بیان کرنا، کو نظروں سے گرانا، دل سے اتارنا، حقیر سمجھنا، کو حد سے زیادہ کم کرنا۔ قَتّات: بہتان لگانے والا، غیبت کرنے والا۔

قتب: ۱- قَتَبَ ـِ ـُ قَتْباً ہ: کو بھنی ہوئی آنتیں کھلانا۔ القِتْبُ جمع اَقْتابٌ: آنتیں (مذکر مونث)۔ گول پیٹ القِتْبَۃُ: آنتیں۔ القَتَبُ ج اَقْتابٌ: آنتیں۔

۲- اَقْتَبَ البعیرَ: اونٹ پر پالان باندھنا۔ ـــ ہ یمیناً: کو سخت قسم دینا۔ ہ الدَّیْنُ: کو قرض کا گرانبار و بوجھل کر دینا۔ القِتْبُ ج اَقْتابٌ: پالان۔ القَتَبُ ج اَقْتابٌ: کجاوہ، کہا جاتا ہے۔ هُوَ قَتَبٌ یَعَضُّ بالغارِبِ: یعنی وہ بہت زیادہ اصرار کرنے والا ہے۔ القَتِبُ: تنگ خو، جلدی غصے میں آنے والا۔ القَتُوبَۃُ: وہ اونٹ جس پر پالان ہو۔ رَجُلٌ مُقَتَّبُ الکاهلِ: ٹیڑھے کندھے والا مرد۔

○ قَتَب جمع اَقْتاب: کُب کوہان، کبڑا پن۔ مُقَوْتَب: کبڑا۔

قتد: قَتَّدَ القتادَ: قتاد کاٹ کر اس کے کانٹے دور کر کے اونٹوں کو چارہ دینا۔ قَتَّدَ القتادَ: قتاد کے اطراف کو آگ سے جھلس دینا۔ القَتادُ (ن): ایک درخت جس کے کانٹے سوئی کی طرح ہوتے ہیں کہا جاتا ہے مِنْ دون هذا الامرِ خَرْطُ القتادِ: یعنی بڑی ہی مشکل سے یہ حاصل ہو سکتا ہے اور درخت قتاد کا کاٹنا اس سے بہت سہل ہے اور خرط القتاد سے مراد اس کے چھلکے اور کانٹے کو ہاتھوں سے دور کرنا ہے۔ القَتْدُ و القِتْدُ ج اَقْتادٌ و اَقْتُدٌ و قُتُودٌ: کجاوہ کی لکڑی۔

○ قَتاد: کتیرا (گوند) حلبہ Tragacanth جلس علی قتاد: وہ کانٹوں کی سیج پر بیٹھا تھا۔

قتر: ۱- قَتَرَ ـِ قَتْراً و قُتُوراً علی عیالِه: بال بچوں پر نفقہ میں تنگی کرنا صفت قاتِرٌ و قَتُورٌ و اَقْتَرُ۔ قُتِرَا الرجلُ: کی روزی کا تنگ ہونا۔ قَتَّرَ علی عیالِه: بال بچوں کے نان نفقہ میں تنگی کرنا۔ اَقْتَرَ: کا مال کم ہونا۔ ـــ علی عیالہ: بال بچوں کے نان نفقہ میں تنگی کرنا۔ اللّٰهُ رِزْقَهُ: اللہ کا کی روزی تنگ کرنا۔ القَتْرُ (مص): زندگی گزر بسر کرنے کے لئے کافی یا اس سے کم روزی۔ القُتْرَۃُ ج قُتَرٌ: تنگ زندگی۔ القاتِرُ و القَتُورُ و الاَقْتَرُ: بخیل جو بال بچوں پر خرچ کرنے میں تنگی سے کام لے۔ التَقْتِیْرُ (مص): قابل گزاران روزی۔

۲- قَتَرَ ـُ قَتْراً و قُتُوراً و قَتِرَ ـَ قَتَراً البخورُ او اللحمُ: بودار ہونا۔ ـــ ت النارُ: دھوئیں والی ہونا۔ قَتَّرَ اللحمُ: گوشت کا بودار ہونا۔ ـ الصیادُ للاسد: شکاری کا شیر کے شکار کے لئے گڑھے میں گوشت ڈالنا۔ ـ الرجلُ: پکی ہوئی چیز کی بو تیز کرنا۔ ـ الوحشَ: اونٹ کے بال وغیرہ کی دھونی دینا تا کہ شکاری کی بو محسوس کر کے بھاگ نہ جائے۔ اَقْتَرَ النارَ: آگ کو دھوئیں والی کرنا۔ ـ ت المراۃُ: عود کی دھونی لینا۔ القَتْرَۃُ: قَتَرَ کا اسم مرہ۔ القِتْرَۃُ: قتر کا اسم نوع۔ القُتارُ: پکی ہوئی چیز کی بھاپ، بخور یا گوشت یا بھنی ہوئی چیز یا جلی ہوئی ہڈی یا عود کی بو۔ لحمٌ قاتِرٌ: گوشت جس میں چکنائی کی وجہ سے بو ہو۔

۳- قَتَرَ ـِ قَتْراً و قُتُوراً الشیئَ: بعض کو بعض سے ملانا۔ ـ الامرَ: کو کرتے رہنا۔ قَتَّرَ الشیئَ: ایک دوسرے کے قریب کرنا۔ اَقْتَرَ الشیئَ: کے قریب رہنا۔ سَرْجٌ قاتِرٌ و مُقْتِرٌ: آرام دہ زین جس سے جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ القِتْرُ: تیر کا پھل۔

۴- قَتَرَ ـِ قَتْراً و قَتَراً و قُتُوراً مابین الامرین: کا اندازہ کرنا۔

قَتَّرَ مابین الامرین: کا اندازہ کرنا۔ القَتْرُ: اندازہ۔ القِتْرُ: اندازہ۔

۵- قَتَرَ ـُ قَتْراً و قُتُوراً الدرعَ: زرہ میں میخوں کے سرے بنانا۔ القُتْرَۃُ ج قُتَرٌ: زرہ کا حلقہ۔ القَتِیْرُ: زرہ کی میخوں کے سرے، زرہ، بڑھاپا یا بڑھاپے کی ابتدا۔

۶- قَتَّرَ ہ: کو خاک پر پچھاڑنا۔ القَتَرُ: گرد و غبار۔ القَتَرَۃُ: گرد و غبار۔ الاَقْتَرُ: خاکستری رنگ والا۔

۷- تقتَّرَ لامر کذا: سے نرمی برتنا۔

۸- تقتَّرَ: غضبناک ہو کر آمادہ جنگ ہونا۔ ـ للامر: کے لئے آمادہ ہونا۔ ـ فلاناً: کو فریب دینے کا ارادہ کرنا۔ ـ للصید: شکار کے لئے قترہ میں چھپنا۔ ـ عنه: سے جدا ہونا۔ تَقاتَرَ القومُ: ایک دوسرے کو فریب دینا۔ اِقْتَتَرَ الصائدُ: قترہ میں چھپنا۔ القُتْرُ و القُتُرُ ج اَقْتارٌ: گوشہ، جانب۔ القُتْرَۃُ ج قُتَرٌ: شکاری کا مچان، عام لوگ اسے بلقوم کہتے ہیں۔ ابوقِتْرَۃَ: ابلیس کی کنیت۔ اِبْنُ قِتْرَۃَ ج بناتُ قِتْرَۃَ (ح): ایک سانپ جس کا ڈسا ہوا انسان بچ نہیں سکتا قترہ ان سب میں غیر منصرف ہے اس لئے کہ مونث معرفہ ہے۔

۹- القِتْرُ: تیر کا نے جو نشانے پر پھینکا جائے۔ القِتْرُ:

مغرور، متکبر۔ القِتْرَۃُ قِتْرٌ کا واحد القُتْرَۃُ ج قُتَرٌ: روشندان۔ قُتْرَۃُ البُسْتَانِ: باغ کی نالی۔ قُتْرَۃُ الْبَابِ: دروازہ بند کرنے کی جگہ۔

قتع: ١۔ قَتَعَ ـَـ قُتُوْعًا: ذلیل ہونا۔ القَتِعَۃُ: ذلیل کہا جاتا ہے ھُوَ اَقْتَعُ مِنْہُ: یعنی وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ مونث قَتْعَاءُ ج قُتْعٌ۔

٢۔ قَاتَعَ مُقَاتَعَۃً ہ: سے مقاتلہ کرنا۔ کے ساتھ لڑنا

٣۔ القَتَعُ: شہد کا چھتہ جو چٹان میں ہو یا جو ایسے غار میں ہو جو زیادہ گہرا نہ ہو۔ القَتَعُ واحد قَتَعَۃٌ (ح): ایک سرخ رنگ کا کیڑا جو لکڑی کھاتا ہے بقول بعض دیمک۔

قَتَعُ السَّاقِ: ایک پروں والا کیڑا جو پھل آور درختوں کے تنوں میں داخل ہو کر انہیں کھوکھلا کر دیتا ہے۔

٭ قَتَرَ ـُـ قَتْرًا و قُتُوْرًا و قَتَّرَ علی: سے کنجوسی کرنا، کے بارے میں کفایت شعار ہونا، کو پیٹ بھر کر کھانا نہ دینا۔ اَقْتَرَ: غریب ہونا یا ہو جانا، قَتْر علی: سے کنجوسی، کفایت شعاری۔ قَتَرۃ: گرد و غبار۔ قُتَار: عطر، خوشبو، مہک، پھولوں کی باس، کسی پکی ہوئی یا بھونی ہوئی چیز کی باس۔ تقتیر علی بمعنی قتر علی، قاتر و مُقتِر علی: سے کنجوسی کرنے والا، کے بارے میں کفایت شعار۔

قتل: ١۔ قَتَلَ ـُـ قَتْلًا و تَقْتَالًا ہ: کو مار ڈالنا صفت قَاتِلٌ ج قَاتِلُوْنَ و قَتَلَۃٌ و قُتَّالٌ: کہا جاتا ہے۔ قتلہ باخیہ: یعنی اس نے اسے اپنے بھائی کے انتقام میں قتل کیا اور کہا جاتا ہے۔ قتلہ اللہ یعنی اللہ اس پر لعنت کرے اور یہ بددعا کے موقع پر کہا جاتا ہے اور مقام مدح، ثناء اور استحسان پر بھی بولا جاتا ہے۔ قَتَّلَ القومَ: بہت سے لوگوں کو قتل کرنا۔ قَاتَلَ قِتَالًا و قِیْتَالًا و مُقَاتَلَۃً ہ: سے جنگ کرنا، دشمنی کرنا۔ ـــ ہ اللّٰہُ: پر لعنت کرنا اور استحسان کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ قَاتَلَہُ اللّٰہُ ما اَشْعَرَہُ: مراد اس سے مدح ہے نہ کہ قتل کی بددعا۔ اَقْتَلَ ہ: کو قتل کے لئے پیش کرنا۔ تَقَتَّلَ القومُ: باہم ایک دوسرے سے جنگ کرنا۔ تَقَاتَلَ و اِقْتَتَلَ القومُ: باہم ایک دوسرے سے جنگ کرنا۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ اِسْتَقْتَلَ: قتل ہونے کے لئے سر جھکانا (جیسے اِسْتَمَاتَ) قتل کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ ـــ فی الامر: کی کوشش کرنا۔ کیلئے جان جوکھوں میں ڈالنا۔ القتل (مص) ـ فی المجاز: شدید ضرب۔ القَتْلُ العَمْدُ: قتل جو مقصود ہو۔ القتلُ الخطأ: قتل جو مقصود نہ ہو۔ القِتْلُ ج اَقْتَالٌ: دشمن، دوست، ہمسر (جنگ وغیرہ میں) نظیر، جنگجو، بہادر کہا جاتا ہے۔ اِنَّہُ لَقِتْلُ شَرٍّ: وہ شر کا جاننے والا ہے۔ القِتْلَۃُ: قتل کا اسم نوع، کہا جاتا ہے۔ قَتَلَہُ قِتْلَۃَ سَوْءٍ: اس نے اس کو برے طریقے سے قتل کیا۔ القَتَالُ: نفس، قوت، کہا جاتا ہے۔ نَاقَۃٌ ذَاتُ قَتَالٍ: یعنی مضبوط اونٹنی۔ القَتُوْلُ ج قُتْلٌ و قُتُلٌ: بہت قتل کرنے والا (مذکر و مونث)۔ القَتِیْلُ ج قَتْلٰی و قُتَلَاءُ و قَتَالٰی: مقتول (مذکر و مونث)۔ المَقْتَلُ ج مَقَاتِلُ: جسم کا وہ عضو مثلاً کنپٹی کہ جس کو ضرب پہنچنے سے آدمی نہ بچے، قتل کی جگہ، قتل۔ المُقَاتِلَۃُ واحد مُقَاتِلٌ: لڑنے والی جماعت، تاء تانیث جماعت کی تاویل کی وجہ سے ہے۔ المُقْتَتَلُ: میدان جنگ۔

٢۔ قَتَلَ ـُـ قَتْلًا و تَقْتَالًا الخمرۃَ: شراب میں پانی ملانا، اسی بنا پر اس شراب کو مقتولہ کہتے ہیں۔ جب اس میں پانی ملا دیا جائے کیونکہ اس کی شدت کم ہو جاتی ہے ـــ الجوعَ او البردَ: بھوک یا سردی کی تیزی کو ختم کر دینا، کہا جاتا ہے۔ قَتَلَ غَلِیْلَہُ: یعنی اس نے اسے پلایا اور اس کی تشنگی سیرابی کی وجہ سے زائل ہو گئی، اور کہا جاتا ہے۔ قَتَلَ الشَّیْءَ خُبْرًا: یعنی اس نے علم کے لحاظ سے اس کا احاطہ کر لیا۔ تَقَتَّلَ لِفُلَانٍ: کے آگے جھکنا، کا فرمانبردار ہونا۔ المُقَتَّلُ: تجربہ کار، باخبر۔

٣۔ تَقَتَّلَ للامر: کام آہستہ کرنا۔

٤۔ تَقَتَّلَ: چلنے میں لچکنا۔

٭ قَتَلَ ـُـ قَتْلًا ہ: کو کم کرنا، کی شدت کو گھٹانا، کو ہلکا کرنا، معتدل کرنا، نرم کرنا۔ البردَ: سردی کو کم کرنا۔ الجوعَ: بھوک کی شدت گھٹانا۔ ـــ ہ ب: میں کی ملاوٹ کرنا۔ ـــ ہ: کو جاننا، میں کمال حاصل کرنا۔ قَتَلَہُ خُبْرًا او عِلْمًا یا قتلہ درسًا و بحثًا: سے خبر یا علم یا مطالعہ اور تحقیق سے پوری طرح واقف ہونا اور کمال حاصل کرنا۔ قَتَلَ الموضوعَ بحثًا: کسی موضوع کا پوری طرح مطالعہ کرنا، کسی موضوع پر تفصیل سے لکھنا، کہنا یا اسے جامع طور پر پیش کرنا۔ قَتَلَ الدھرَ خِبْرَۃً: زندگی کا لمبا تجربہ رکھنا، دنیا سے باخبر ہونا۔ قَتَّلَ ھُم: لوگوں کا قتل عام کرنا، لوگوں میں شدید خونریزی کرنا۔ قَاتَلَ ہ: سے لڑنا، کے ساتھ یا خلاف لڑنا۔ قَاتَلَہُ اللّٰہُ: مردود حرامزادہ (لفظی معنی، اللہ تعالی اس سے لڑے)۔ تَقَاتَلَ و اِقْتَتَلَ: ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، جنگ کرنا۔ اِسْتَقْتَلَ: اپنی زندگی خطرہ میں ڈالنا، موت کی پروا نہ کرنا۔ قَتْل: قتل کرنا، قتل، خونریزی، قتل عام، مردم کشی، قتل انسانی، خفیہ قتل، انسان کا قتل۔ قتل بسبب: بالواسطہ قتل۔ قتل الخطأ: اتفاقی قتل۔ القتلُ العَمْدُ یا القتلُ العَمْدِی یا القتلُ عمدًا یا القتلُ العَمْدُ مع سَبْقِ الاصرار: پہلے سے سوچا ہوا قتل، عمداً قتل۔ القِتْلُ جمع اَقْتَال: دشمن، حریف، مخالف، رقیب، مدمقابل، قَتِیْل جمع قَتْلٰی: مقتول، جنگ میں مارا گیا شخص، جنگ یا حادثہ کا مقتول۔ قتیلُ الحرب: جنگ میں قتل ہونے والا۔ قَتَّال: قاتل، قاتلانہ، جان لیوا، مہلک، اَقْتَل: تاثیر میں زیادہ جان لیوا یا زیادہ مہلک۔ مَقْتَل: قتل، موت، قاتلانہ جنگ جمع مَقَاتِل: جسم کا عضو رئیسی (جس کا زخم موت کا باعث ہو)۔ ہدف بننے والی غیر محفوظ جگہ۔ ضَرَبَہُ فی مَقَاتِلِہِ یا اصاب منہ المَقْتَل: اس نے اس کے انتہائی غیر محفوظ مقام پر ضرب لگائی۔ مَقْتَلَۃ جمع مقتلات: خونریزی، قتل عام، تقتیل: خونریزی، قتل عام، قِتَال: جنگ، جدوجہد، جھگڑا، لڑائی۔ ساحۃُ القتال: میدان جنگ، میدان کارزار، لڑائی کا میدان۔ قاتِل: قاتلانہ، جان لیوا، مہلک جمع قُتَّال و قَتَلَۃ: قاتل، قاتِلات: مہلک عوامل (ل: کے خلاف) مُقَتَّل: تجربہ کار، مشاق، ماہر، آزمایا ہوا، تجربہ کیا ہوا، جانچا ہوا۔ مُقَاتِل: لڑنے والا، جنگجو، نبرد آزما، جنگ آزما، لڑائی کا، جنگ کا (مرکب الفاظ میں) مُقَاتِلۃ: جنگجو لوگ، لڑنے والے، جنگ کرنے والے، لڑنے والی افواج۔ مُقَاتِلۃ جمع مُقَاتِلات: لڑاکا طیارہ، ہلکا بمبار طیارہ۔ مُقْتَتَل میدان جنگ، جنگ کا میدان یا علاقہ۔ مُسْتَقْتِل: موت کی پروا نہ کرنے والا، بہادرانہ، ہیرو کا سا۔

قتم: قَتِمَ ـَـ قَتَامَۃً و قُتُوْمًا: سیاہی مائل ہونا۔ قَتَمَ قُتُوْمًا وجھُہُ: کے چہرے کا متغیر ہونا۔ ـــ قُتُوْمًا و قَتِمَ ـَـ قَتْمًا الغبارُ: غبار کا بلند ہونا۔ اَقْتَمَ الیومُ: بہت غبار والا دن ہونا۔ اِقْتَمَّ اِقْتِمَامًا الشیءُ: کالا ہونا، سیاہی مائل ہونا۔ القَتْمُ (مص): گرد و غبار۔ القُتْمَۃ: خاکستری مائل سرخ رنگ۔ القَتَام والقَتَمَۃ: سیاہ گرد و غبار، لڑائی کا غبار، تاریکی، سیاہی۔ القَاتِمُ (فا) ج قَوَاتِمُ: کالا، کہا جاتا ہے۔ اَسْوَدُ قَاتِمٌ کالا سیاہ اور کہا جاتا ہے۔ مکان قاتم الاعماق: کچھ سیاہی مائل وسیع جگہ۔ الاَقْتَمُ: سیاہی مائل، بھورا

قتن: قَتَنَ ـُـ قُتُوْنًا السمکُ: مچھلی کا خشک ہونا اور اس کی تری کا زائل ہونا۔ قَتُنَ ـُـ قَتَانَۃً و اَقْتَنَ: کم خوراک ہونا، دبلا ہونا۔ القَاتِنُ (فا): سیاہی مائل کہا جاتا ہے: اَسْوَدُ قَاتِنٌ: بہت سیاہ۔ القَتَانُ و القُتَانُ: سیاہ گرد و غبار۔ القَتِیْنُ: کم خوراک (مذکر و مونث) دبلا پتلا، باریک نیزہ، ذلیل و خوار، چیچڑی۔

قتو: ا۔ قَتَا ـُـ قَتْوًا و قَتًا و قَتِيّ و مَقْتَى الملوكَ: کی اچھی خدمت کرنا صفت قاتٍ۔ اِقْتَوَى الرجُلَ: سے خدمت لینا (اس کی کوئی نظیر نہیں ہے)۔ القَتْوَةُ قَتَا سے اسم مرہ۔ المَقْتَى ج مَقْتَوُوْنَ ومَقَاتِوَةٌ و مَقَاتِيَةٌ: جو پیٹ بھر خوراک پر خدمت کرے اور اکثر بادشاہ کے خدام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ المَقْتَوِىّ: بمعنی مَقْتَى۔

۲۔ القَتْوَةُ: چغلی۔

قتّ: قَتَّ ـُـ قَتًّا الشيئَ: کو کھینچنا۔ الابلَ: اونٹوں کو پانی پلانا۔ ـــ قَتًّا و قِتِّيْتَى المالَ: کو بکثرت جمع کرنا۔ القُتَاتُ: سامان کہا جاتا ہے جاءَ القَوْمُ بِقُتَاتِهِم و قُتَاتِهِم: قوم اپنے تمام ساز وسامان کے ساتھ آگئی۔ القَتَاتَةُ و القِتِّيْتَةُ و المَقَتَّةُ: لوگوں کی جماعت۔

۲۔ قَتَّ ـُـ قَتًّا و اِقْتَتَّ الشجرَ: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔

۳۔ القَتَّاتُ: چغل خور۔

۴۔ قَتْقَتَ قَتْقَتَةً الوتدَ: کو نکالنے کے لئے حرکت دینا۔ ـ المكيالَ: پورا تولنا۔

قثأ: اَقْثَأَ المكانُ: جگہ کا بہت ککڑی والی ہونا۔ ـ القومُ: لوگوں کے پاس بہت ککڑی ہونا۔ القُثَّاءُ و القِثَّاءُ واحد قُثَّاءَةٌ (ن): ککڑی المَقْثَأَةُ و المَقْثُؤَةُ ج مَقَاثِئُ: ککڑی کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ارضٌ مَقْثَأَةٌ ومَقْثُؤَةٌ: ککڑی والی زمین۔

قثر: تَقَثَّرَ الرجُلُ: متردد ہونا، گھبرانا۔ اِقْتَثَرَ الشيئَ: کو گھر کے لئے سامان بنانا۔ القِثْرَةُ: گھر کا سامان۔

○ قَثَّ ـُـ قَثًّا و اِقْتَثَّ ھ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔

قثم: ا۔ قَثَمَ ـِ قَثْمًا الشيئَ: کو شیر کے پاخانہ سے لتھیڑنا۔ قَثِمَ ـَـ وقَثَمَ ـُـ قُثْمَةً و قَثَمًا: شیر کے پاخانہ سے لتھڑنا۔ قَثَامِ (مبنی بر کسرہ)(ح) مادہ بجو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو شیر کے پاخانہ سے لت پت کرلیتی ہے۔ اس بناء پر اس کا نام قثام رکھ دیا گیا ہے۔

۲۔ قَثَمَ ـِ قَثْمًا المالَ: بہت مال لینا۔ ـُ قَثْمًا له من المالِ: کو یکبارگی مال دینا۔ اِقْتَثَمَ المالَ: بہت مال لینا۔ ـ الشيئَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ القاثِمُ (فا): دینے والا۔ القُثَمُ: سخی لوگ۔ القُثَمُ: بہت دینے والا (قاثم سے معدول ہے۔ ـ والقَثُوْمُ: خیر یا شر کا جمع کرنے والا۔

۳۔ قَثَمَ ـِ قَثْمًا في مشيه: سست چلنا۔

۴۔ قَثِمَ ـَـ قَثَمًا و قَثَامَةً: گرد آلود ہونا۔ القُثْمَةُ: خاکستری رنگ۔

۵۔ اِقْتَثَمَ الرجُلَ: کو ذلیل کرنا۔

قثو: قَثَا ـُـ قَثْوًا وقَثَى يَقْثِي قَثْيًا و اِقْتَثَى المالَ: مال جمع کرنا۔ القَثَا: ایسی چیزوں کا کھانا جس سے کھانے میں آواز نکلے جیسے ککڑی وغیرہ۔

قجّ: القَجَّةُ: دراہم کے محفوظ کرنے کی تھیلی (عامیہ)۔

○ قَثَاطِير: پیشاب نکالنے کی نالی قَثْطَرَةٌ: پیشاب نکالنے کی نالی۔

قحّ: ا۔ قَحَّ ـَـ قُحُوْحَةً و قَحَاحَةً: خالص ہونا۔ القُحُّ ج اَقْحَاحٌ: خالص کہا جاتا ہے: فلانٌ كريمٌ قُحٌّ واعرابيٌّ قُحٌّ: فلاں خالص کریم اور خالص اعرابی ہے۔ القحُّ مونث القُحَّةُ: سخت اور بدخو کہا جاتا ہے اعرابية قحة: سخت اور بدخو اعرابیہ۔ القُحَاحُ: خالص۔

۲۔ قَحْقَحَ الصوتُ: آواز کا حلق میں گھومنا۔ القردُ: بندر کا ہنسنا۔

○ قَحَّ: کھانسنا، کھنکارنا، کھوں کھوں کرنا۔ قَحْبَةٌ جمع قِحَاب: رنڈی، کسبی، طوائف، بیسوا۔

قحب: ا۔ قَحَبَ ـُـ قَحْبًا و قُحَابًا و قَحَبَ: کھانسنا۔ ـ سُعَالٌ قَاحِبٌ: سخت کھانسی۔ القَحْبُ: کھانسی والا، سن رسیدہ۔ القَحْبَةُ۔ جمع قِحَاب ۔ قَحْبٌ کا مونث۔ بڑھیا۔

۲۔ قَحَبَ ـُـ قَحْبًا و قُحَابًا و قَاحَبَ و تَقَحَّبَ ت المرأةُ: عورت کا بدکار ہونا۔ القَحْبَةُ ج قِحَابٌ: بدکار، زانیہ۔

قحث: قَحَثَ ـَـ قَحْثًا الشيئَ: کل چیز لے لینا۔

قحد: ا۔ قَحَدَ ـَـ قُحُدًا و اَقْحَدَ البعيرُ: اونٹ کا بڑی کوہان والا ہونا۔ اِسْتَقْحَدَتِ الناقةُ: اونٹنی کا بڑے کوہان والی ہونا۔ القَحَدَةُ ج قِحَادٌ واَقْحُدٌ: کوہان یا کوہان کی جڑ۔ ـ ناقةٌ قَحِدَةٌ و ناقةٌ مِقْحَادٌ ج مَقَاحِيْدُ: بڑے کوہان والی اونٹنی۔ المَقْحَدَةُ: کوہان کی جڑ۔

۲۔ القُحَادُ: وہ شخص جس کا نہ بھائی ہو نہ لڑکا۔

قحز: قَحَزَ ـَـ قَحْزًا: کودنا، بے چین ہونا، مضطرب ہونا۔ القَاحِزَاتُ: سختیاں۔

۲۔ قَحَزَ ـَـ قُحُوْزًا: نیم مردہ کی طرح گرنا۔ ـ قَحْزًا و قُحُوْزًا به: کو پچھاڑنا۔ ـــ قَحْزًا و قُحُوْزًا و قَحَزَانًا الرجُلَ: کو ہلاک کرنا۔ قَحَزَهُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ قَحَّزَ به: کو پچھاڑنا۔ ـ هُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ تَقَحَّزَ له الكلامَ: سے سخت کلامی کرنا۔ القَحَّازَةُ (مص): پرندوں کے شکار کا جال۔ التَقْحِيْزُ: وعید، دھمکی۔ برائی جُوْعٌ مُقْحِزٌ: سخت بھوک۔

قحط: ا۔ قَحَطَ ـَـ قَحْطًا هُ: کو سخت مارنا۔ المِقْحَطُ: نہ جھکنے والا گھوڑا۔

۲۔ قَحَطَ ـَـ قَحْطًا المطرُ: بارش رکنا۔ ـَـ قَحْطًا و قَحَطًا و قُحُوْطًا العامُ: سال کا بے بارش اور خشک ہونا صفت قَاحِطٌ ج قَوَاحِطُ۔ قَحِطَ ـَـ قَحَطًا المطرُ: بارش رکنا۔ ـَـ قَحْطًا و قَحَطًا و قُحُوْطًا العامُ: سال کا بے بارش اور خشک ہونا صفت قَاحِطٌ ج قَوَاحِطُ۔ قَحَطًا البلدُ: ملک کا بے بارش اور خشک سالی والا ہونا۔ قُحِطَ قَحْطًا و قَحَطًا و قُحُوْطًا العامُ: سال کا خشک ہونا۔ قَحَطًا البلدُ: ملک کا بے بارش ہونا اَقْحَطَ العامُ: سال کا بے بارش اور خشک ہونا۔ البلدُ: ملک میں بارش رکنا۔ ـ الناسُ: لوگوں کا بے بارش ہونا۔ ـــ اللّٰهُ الارضَ: اللہ کا زمین میں قحط ڈالنا۔ عَامٌ قَحِطٌ و مَقْحُوْطٌ: سال جس میں بارش نہ ہو اور خشک سالی رہے عَامٌ قَحِيْطٌ: خشک سال سَنَةٌ قَحِيْطٌ: خشک سال۔

۳۔ قَحَطَ ـَـ قَحْطًا الوَحْلَ و نحوَه عند العامة: کیچڑ وغیرہ ہٹا دینا قَحَّطَ القِدرَ وغيرها عند العامة: ہنڈیا کے نیچے لگا ہوا کھانا کھرچ ڈالنا، اسم تقحیط القُحَاطَةُ: (کیچڑ وغیرہ جس کو ہٹا دیا جاتا ہے (عامیہ)۔ المِقْحَطَةُ: کیچڑ ہٹانے کا آلہ (عامیہ)

۴۔ قَحَّطَ النخلةَ: درخت خرما میں گابھا دینا۔

○ قَحَطَ ـــ قَحْطًا و قُحُوطًا و قَحِطَ ـَ قَحَطًا: بارشوں کا رکنا، نہ برسنا۔ ـ وقُحِطَ: سال کا بے بارش ہونا۔ قَحَّطَ النخلةَ: کھجور کے درخت پر زر گل چھڑکنا۔ ـــ ھ: کو چھیل کر اتارنا، کھرچ کر اتارنا۔ اَقْحَطَ: سال کا بے بارش ہونا۔ قَحْط: بارش کا نہ ہونا، قحط باران، خشک سالی، قحط، کال، کمی، قلت، احتیاج، قَحْطَان: جنوبی عرب کے لوگوں کا روایتی بزرگ۔

قحف: قَحَفَ ـَ قَحْفًا ه: کی کھوپڑی کاٹنا یا توڑنا۔ ـ الرُّمَّانَةَ: انار چھیلنا۔ چھلکا اتارنا۔ القِحْفُ ج اَقْحَافٌ و قُحُوْفٌ و قِحَفَةٌ: کھوپڑی، کھوپڑی کا وہ حصہ جو ٹوٹ کر جدا ہو جائے، لکڑی کا پیالہ، کہا جاتا ہے۔ رماه باقحاف رأسه: اس نے اس پر بڑے بڑے کام ڈال دیئے، اس نے اس کو تباہی میں مبتلا کر دیا اور کہا جاتا ہے فلان ماله قدّ ولا قِحفٌ: فلاں نہ تو اس کے پاس چمڑے کا پیالہ ہے نہ لکڑی کا یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ قِدّ: چمڑے کے پیالے کو کہتے ہیں۔

۲۔ قَحَفَ ـَ قُحَافًا: کھانسنا۔ ـ قَحْفًا الشيئَ:

بہالے جانا۔ الحبّ: دانے کو بکھیرنا۔ ـــــ ما فی الاناء: ڈگڈگا کے سب پی جانا۔ اِقتحَفَ ـ مافیِ الاناء: ڈگڈگا کے سب پی جانا۔ ــــ السیلُ کُل شیئ: سیلاب کا ہر چیز بہالے جانا۔ القَاحِفُ (فا) ج قُحُف: برتن سے سب کچھ نکالنے والا۔ القِحَافُ: ڈگڈگا کے پینا۔ القَحَافُ: بہالے جانے والا سیلاب۔ الـقـحَـافة: ہر وہ چیز جس کو ایک ہی سانس میں پی لیا جائے۔ عَجَاجة قُحفاء: آندھی جو سب چیزوں کو اڑالے جائے۔ المَقحَفة ج مَقاحِفُ: وہ لکڑی جس سے دانے کو بکھیرا جائے۔

○ قَحَفَ ـ قَحْفا ہ: کو نگلنا، ہڑپ کرنا، (دریا کا) کو بہا لیجانا، اِقتَحَفَ ہ: کو نگلنا، ہڑپ کرنا، کو دریا کا بہالے جانا۔ القِحْف جمع قُحُوف و اَقحاف و قِحَفة: کاسۂ سر، کھوپڑی کا استخوانی حصہ۔ قُحاف: تند و پرشور (دریا)۔

قحل: قَحَلَ ـ قُحُولًا و قَحِلَ ـ قَحْلًا و قَحَلًا و قُحِلَ الشیئُ: خشک ہونا صفت۔ قَاحِلٌ و قِحْلٌ و قَحِلٌ و اِنقَحَلَ: اس سے ہے۔ قَحَلَ الشیخُ: بوڑھے کی ہڈیوں پر کھال خشک ہوگئی اور بہت بوڑھا ہوگیا۔ اور کَیفَ نَرُدُّ شَیخَکُم وَقَدْ قَحَل: ہم تمہارے شیخ کو کیسے واپس کرسکتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ مرگیا اور اس کی کھال خشک ہوگئی۔ اَقحَلَ الشیئَ: کو خشک کرنا کہا جاتا ہے۔ اَقحَلَهُ الصوم: روزے نے اس کی کھال کو خشک کردیا۔ تَـقَـحَّـلَ الشیخ: بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے خشک کھال والا ہونا۔ ـ فی لبوسه وحاله: برے لباس اور حال والا ہونا۔ القَاحِلُ: (فا) ـ من الجلود: خشک کھال۔ القُحَال: بکریوں کی ایک بیماری جس سے کھال خشک ہوجاتی ہے۔ القُحُولَة: خشکی۔ المُتقَحِّل من الرجال: خشک کھال والا، بدحال۔

۲۔ قَاحَلَ مُقَاحَلَةً ہُ: کے ساتھ رہنا۔

○ قَحِلَ ـ قَحَلًا و قُحِل: خشک ہونا یا ہوجانا، بے برگ وگیاہ اور بنجر ہونا یا ہوجانا۔ قَحَل: خشکی، سوکھاپن، بنجر پن، قاحِل: خشک، سوکھا، بنجر، بے آب وگیاہ۔ قُحُولَة: خشکی، سوکھاپن، بنجرپن۔ قَحْلاء: (مونث)۔ خشک قَحِل: خشک، سوکھا، بنجر، بے آب وگیاہ۔

قحم: ۱۔ قَحَمَ ـ قَحْمًا و قُحُومًا فی الامر: کسی معاملہ میں بلا سوچے سمجھے گھس پڑنا۔ ــــ الیه: کے قریب ہونا۔ ـ قَحْمًا المفاوز: بیابان طے کرنا۔ قَحَّمَ ہُ فی الامر: کو معاملہ میں بلا سوچے سمجھے داخل کرنا۔ ــــ الفرسُ رَاکِبَهٗ: گھوڑے کا سوار کو چہرے کے بل گرانا۔ اقحَمَ ہُ فی الامر: کو معاملہ میں بلا سوچے سمجھے داخل کرنا۔ ـ فرسَهُ النهر: گھوڑے کو نہر میں زبردستی داخل کرنا۔ الکلمة: کسی کلمہ کو دو متلازم کلمے مثلاً مضاف مضاف الیہ کے درمیان داخل کرنا جیسے رِجْل کا لفظ یَدَ اور مَنْ کے درمیان اس قول میں قَطَعَ اللّٰهُ یَدَوَرِجْلَ مَنْ قَالَهَا: کیونکہ اصل ترکیب یوں ہے۔ قطع اللّٰه یدمن قالها ورجله اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کا ہاتھ اور پاؤں کاٹے۔ اُقحِمَ القوم: قحط سالی کی وجہ سے اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی سرسبز و شاداب جگہ میں چلے جانا۔ تـقَحَّمَ الفرسُ النهرَ: گھوڑے کا نہر میں داخل ہونا، گھسنا۔ ــــ الامر: کسی معاملہ میں اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ ڈال دینا۔ ـ الفرسُ براکبه: گھوڑے کا سوار کو چہرے کے بل گرانا۔ اِقتَحَمَ: معنے کے لحاظ سے اقحم کا فعل لازم ہے۔ اِقتَحَمَ الامرَ: کسی معاملہ میں اپنے آپ کو شدت اور مشقت کے ساتھ ڈال دینا۔ ـ المنزل: میں ہجوم کرنا۔ النجمُ: ستارے کا غروب ہونا۔ اِنقَحَمَ: بے سوچے سمجھے گھس پڑنا۔ القَحْمُ: مونث قَحْمَة ج قِحَام: بہت بوڑھا۔ القُحْمَةُ ج قُحَمٌ: مشکل کام، ہلاکت، بے سوچے سمجھے سفر کو چل پڑنا، قحط۔ ــــ القُحَمُ فی الخصُومَاتِ: وہ جو انسان کو مکروہات پر برانگیختہ کرے، کہا جاتا ہے۔ لِلْخُصُومَةِ قُحَمٌ (جھگڑے کے لئے خطرات میں کودنا پڑتا ہے) اور القُحَمُ من الشهر: مہینے کی آخری تین راتیں، کیونکہ ان میں چاند سورج کے قریب نہیں ہوتا۔ قُحَمُ الطَرِیقِ: راستہ کی دشواریاں۔ القَحَامَة والقُحُومَةُ: بہت بڑھاپا۔ القَحُوم: بہت بوڑھا۔ المِقحَام ج مَقَاحِیمُ: اقحام سے اسم مبالغہ وہ شخص جو سخت مصیبتوں میں گھس پڑے۔ المَقَاحِمُ: ہلاکتیں اس کا مفرد قُحْمَة ہے لیکن یہ لَمْحَة کی جمع مَلامِحُ کی طرح خلاف قیاس ہے۔

۲۔ اِقتَحَمَ فلانًا: سے حقارت کرنا، کہا جاتا ہے اِقتَحَمَتهُ عَیْنِی: میری آنکھوں نے اس کو ذلیل سمجھا۔ القَحْمُ مونث قَحْمَة ج قِحَام: دبلا۔ المُقحَمُ: کمزور۔

۳۔ المُقحَمُ: وہ اعرابی جس کی پرورش جنگل میں ہوئی ہو۔

○ اَقحَمَ ہُ فی: میں دھکیلنا، گھسیٹنا، کھینچنا، مبتلا کرنا۔ ــــ ہ فی: کو میں بھرنا، کو میں زبرستی ڈالنا۔ اَقحَمَ نفسَهُ بینهم: خود کو لوگوں کے درمیان کھینچ کر پہنچانا۔ اِقتَحَمَ ہ: میں زور سے گرنا، کود پڑنا، اندھادھند کود پڑنا، میں زور سے داخل ہونا، زبردستی گھس آنا، پر چڑھائی کرنا، چڑھ دوڑنا، حملہ کرنا، حملہ آور ہونا، میں غائب ہوجانا، پر تیر کی طرح جھپٹنا، ہلہ بولنا، پر ایک دم سے دھاوا کر کے قبضہ کرلینا، (خطرہ، مشکلات) کی پرواہ نہ کرنا۔ قُحْمَة جمع قُحَم: جوکھوں والا کام۔ مِقحام جمع مقاحِیم: بے توجہی سے خطرہ میں کود پڑنے والا، غیر محتاط، نڈر، بے باک، بے وقوف، جیالا۔

قحو: قَحَا ـ قَحْوًا الدواءَ: دوا میں گل بابونہ ڈالنا۔ و اِقتَحی المالَ: کل مال لے لینا۔ اَقحَت الارضُ: زمین کا گل بابونہ اگانا۔ القُحْوَانُ والاُقحُوَانُ: گل بابونہ، واحد قُحْوَانَة واُقحُوَانَة ج اَقَاحِیُّ واقَاحٍ، اس کی تصغیر اُقَیحِیَانٌ ہے اور اس کا واحد اُقَیحِیَانَة ہے (ن) ایک پودا جس کے سفید پھول اور اس کے پھولوں کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ انہیں الگ الگ ہونے کی وجہ سے دانتوں سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کو بابونہ کہتے ہیں۔ اقَاحِی الامرِ: کام کے اوائل۔ المِقحَاة: پھاوڑہ۔

○ اُقحُوان جمع اقَاحٍ و اَقَاحی: بابونہ، گل بہاری، ڈیزی (daisy)

قد: قَدْ: مندرجہ ذیل معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ۱۔ بمعنی حَسْبُ جیسے قَدْزَیْدٍ دِرهَمٌ یعنی زید کے لئے ایک درہم کافی ہے اور قَدِیْ دِرهَمٌ: بغیر نون وقایہ کے جیسے حَسْبِی دِرهَمٌ: ۲۔ اسم فعل بمعنی کَفَی یا یَکْفِی جیسے قَدْنِی دِرهَمٌ بمعنی یَکْفِینِی دِرهَمٌ: ان سب صورتوں میں قَدْ اسم ہے، ۳۔ مضارع کے ساتھ توقع کا فائدہ دیتا ہے جیسے قَدْ یَقدِمُ الغائِبُ الیَومَ توقع ہے کہ غائب آج آجائے اور کبھی تقلیل کا جیسے قَدْ یَصْدُقُ الکَذُوبُ جھوٹا آدمی کبھی سچ بول لیتا ہے اور ماضی کے ساتھ تحقیق کا فائدہ دیتا ہے جیسے قَدْ اَفلَحَ مَنِ اتقی اللّٰهَ جو اللہ سے ڈرا اس نے یقیناً فلاح پائی قرآن میں ہے قَدْ اَفلَحَ مَنْ زَکّاهَا، قَدْ اَفلَحَ المُومِنُونَ اور حال سے قریب کرنے کے لئے جیسے قَدْ قَامَ فُلَانٌ جبکہ قیام زمانہ قریب میں ہی ہوچکا ہو اور مضارع کے ساتھ تکثیر کا فائدہ دیتا ہے جیسے قَدْ اَشهَدُ الغَارَةَ الشَعوَاءَ تَحمِلُنِی: مراد یہ ہے کہ میں لوٹ میں بہت حاضر ہوا کرتا ہوں۔

قدّ: ۱۔ قَدَّ ـ قَدًّا الشیئَ: کو جڑ سے کاٹنا، لمبائی میں پھاڑنا یا کاٹنا، تم کہتے ہو قَدَدْتُ الشیئَ نِصْفَینِ: اور کبھی مفعول ثانی پر حرف جار با کی زیادتی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے قددت الشیئ بنصفین ـ قَدَّ المسافر الفلاةَ: بیابان طے کرنا۔ ــــ الکلامَ: بات کاٹنا۔ قُدَّ: پیٹ درد والا ہونا۔ ـ فلان قَدَّ السیف: فلاں کا

اچھے طریقے سے کاٹنا۔ قَدَّ الشیئَ: کو جڑ سے کاٹنا،
لمبائی میں پھاڑنا یا کاٹنا۔ ـــ اللحمَ: کے ٹکڑے کرنا
اور اسے خشک کرنا۔ تَقَدَّدَ: پھٹنا۔ الشیئُ: خشک
ہونا۔ ـــ الثوبُ: کٹ جانا اور پرانا ہونا۔ ـــ القومُ:
متفرق ہونا مختلف الرائے فرقے ہونا۔ ـــ الثوبُ علیه:
کپڑے کا اندازہ اور طول کے مطابق ہونا۔ اِقْتَدَّ
ـــ الشیئَ: بمعنی قَدَّہ۔ الشیئُ: پھٹنا ـــ الامورَ:
کی تدبیر کرنا، تمیز کرنا۔ اِنْقَدَّ: پھٹنا۔ اِسْتَقَدَّ الامرُ:
برابر ہونا۔ القِدُّ (ح) ایک سمندری مچھلی جس کی
ایک قسم سے تیل نکالا جاتا ہے۔ القَدُّ (مص) ج اَقُدٌّ
و قُدُوْدٌ و قِدَادٌ و اَقِدَّۃٌ: کوزا یا چابک، بکری کے بچہ
کی کھال، آدمی کی قامت، اور اعتدال مقدار کہا جاتا
ہے۔ هٰذا علی قَدِّذاك: یعنی یہ اس کی مقدار کے
مطابق ہے (ـــ) عوامی گیتوں کے وزن پر صحیح
الاعراب فصیح کلام ترتیب دینا۔ القِدُّ ج اَقُدٌّ: چمڑے
کا برتن، تسمہ، کاٹی ہوئی چیز، چابک، ـــ کہا جاتا ہے
مَالَهُ قِدٌّ ولا قِحْفٌ یعنی نہ تو اس کے پاس چمڑے کا
برتن ہے اور نہ لکڑی کا جو کنایہ ہے اس بات سے کہ
اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ القِدَّۃُ ج قِدَدٌ و
اَقِدَّۃٌ: چمڑے کا تسمہ، چیز کا ٹکڑا، مختلف الرائے فرقہ کہا
جاتا ہے۔ کنا طرائق قِدَدًا یعنی ہم مختلف الرائے
فرقے تھے۔ ـــ عند الکتاب: چھپٹی، رول، رولر
(ruler) عند البنائین والنجارین: ناپنے کی چھپٹی۔
القُدَادُ: پیٹ کا درد۔ القَدِیْدُ: کاٹا ہوا اور خشک کیا ہوا
گوشت، پرانا کپڑا۔ القُدَیْدُ: چھوٹا ٹاٹ۔ القَدِیْدِ
یُّوْنَ: فوج کے توابع جیسے درزی نائی وغیرہ۔ بعض کے
نزدیک یہ لفظ تقدد سے ہے اور معنی ہے فوج کے وہ
ماتحت جو ملک میں اشد ضرورت کیلئے بکھر جاتے ہیں
اور ان کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ المَقَدُّ: راستہ،
ہموار جگہ۔ المِقَدُّ والمُقَدُّ والمِقَدَّۃُ: کاٹنے کی
چھری۔ المَقْدُوْدُ: دبلا، کمزور (عامیہ)

۲۔ اِسْتَقَدَّ الامرُ: ہمیشہ ہونا۔

۳۔ القُدَادُ (ح) الیَرْبُوع جنگلی چوہا، (ح) سیہی۔

○ قَدْ: فعل سے پہلے آتا ہے، کام کی تکمیل پر دلالت کرتا
ہے کبھی اب سے پیشتر قبل ازیں یا پہلے، پہلے ہی سے
کے معنی دیتا ہے، مضارع پر آئے تو کبھی کبھی، کبھی
کبھار، گاہے گاہے، بعض اوقات اور شاید ممکن ہے،
سکتا، غالبًا وغیرہ کے معنی دیتا ہے۔ قِدٌّ جمع اَقُدٌّ
(چمڑے کا) لمبا ٹکڑا یا چوڑی پٹی، تسمہ، فیتہ۔ قِدَّۃ جمع
قِدَد: پٹڑی، مسطر، رولر۔ تفرقوا طرائق قددا: کئی
حصوں یا گروہوں میں بٹ جانا، کا اجتماع ختم ہونا،

ٹوٹنا۔ قَدِیدہ: گوشت کے لیے ٹکڑے جنہیں نمک لگا
کر سکھا لیا گیا ہو۔ علیٰ قَدِّہ: اسی قامت، قد،
ضخامت، حجم کا، یکساں ضخامت کا، اتنا ہی بڑا۔

قدح ۱۔ قَدَحَ ـَ قَدْحًا فی عِرضه: کو طعنہ مارنا، پر
عیب لگانا، میں نقص نکالنا، کہا جاتا ہے۔ قَدَحَ فِی
سَاقِ اَخِیْهِ: اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا۔ قَادَحَہٗ
و تَقَادَحَا: ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا یا مناظرہ
کرنا۔
المِقْدَاحُ: لوگوں میں خفیہ سازشیں کرنے والا (عامیہ)۔

۲۔ قَدَحَ ـَ قَدْحًا الدودُ فی الاسنان او الشجر:
دانت یا درخت میں کیڑا لگنا۔ القَدْحُ (مص):
دانت یا لکڑی کا کیڑا۔ القَادِحُ (فا): دانت یا درخت
کی سیاہی یا کیڑا۔ لکڑی میں شگاف۔ القَادِحَۃ ج
قَوَادِحُ القادح کا مونث (ح) درخت یا دانت
کا کیڑا۔

۳۔ قَدَحَ ـَ قَدْحًا فی القِدح: تیر کے پھل میں سوراخ
کرنا اور عوام اسے سوراخ کے معنی میں استعمال کرتے
ہیں۔ ـــ ختام الخابیة: مٹکے کی مہر کو توڑ دینا۔
الطبیبُ العینَ: آنکھ کے اندرونی حصہ سے پانی نکالنا۔
ـــ ت العینُ: آنکھ کا دھنس جانا۔ قَدَحَ ت العینُ:
آنکھ کا دھنس جانا ـــ الفرسَ: گھوڑے کو دبلا کرنا۔
القِدْحُ ج قِدَاحٌ و اَقْدُحٌ و اَقْدَاحٌ وقِدْحَانٌ
جج اَقَادِیْحُ: بغیر پر اور نصل کے تیر، سوراخ (عامیہ)۔

۴۔ قَدَحَ ـَ قَدْحًا الشیئَ: کا چلو لینا۔ المَرَقَ: شوربا
نکالنا۔ ـــ القِدرَ: ہانڈی کی چیز چمچے سے نکالنا۔
اِقْتَدَحَ المَرَقَ: شوربا نکالنا۔ القِدرَ: ہانڈی میں جو
کچھ ہو چمچے سے نکالنا۔ القُدْحَۃُ من المَرَق: چمچہ بھر
شوربا۔ القَدِیْحُ: شوربا یا وہ جو ہانڈی کی تلی میں رہ
جائے اور مشکل سے چمچے سے نکلے۔ المِقْدَحُ
و المِقْدَحَۃ: چمچہ۔

۵۔ قَدَحَ ـَ قَدْحًا بالزَّنْدِ: چقماق سے آگ نکالنے کی
کوشش کرنا کہا جاتا ہے قَدَحَ الشیئُ فی صدری
یعنی چیز نے میرے سینے پر اثر کیا، اور کہا جاتا ہے
اِضِی لِیَ اَقْدَحْ لَكَ: یعنی تم میرے لئے ہو جاؤ میں
تمہارے لئے ہو جاؤں گا۔ اِقْتَدَحَ بالزَّند: چقماق
سے آگ نکالنے کی کوشش کرنا ـــ الامرَ: معاملہ کی
تدبیر کرنا۔ اِسْتَقْدَحَ زِنَادَہٗ: چقماق سے آگ
نکالنا۔ القَدْحُ: اقتداح النار کا اسم۔ القُدْحَۃ: قدح
کا اسم نوع۔ حُمّٰی قَادِحَۃ: بہت تیز بخار۔
القَدَّاحُ: چقماق کا پتھر، لائٹر۔ القَدَّاحۃ: چقماق کا
پھر فولاد یا لوہا جسے چقماق سے چنگاریاں نکالنے کے
لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ چقماق اور سٹیل، لائٹر۔
الاقدَحُ و القَدُوْحُ (ح) مکھی۔ المِقْدَحُ
والمِقْدَاحُ: چقماق کا لوہا۔

۶۔ القِدْحُ ج قِدَاحٌ و اَقْدُحٌ و اَقْدَاحٌ و قِدْحَانٌ جج
اَقَادِیْحُ: جوئے کا تیر، کہا جاتا ہے۔ صَدَقَ فِھم
وَسْمُ قِدْحِهِ: یعنی ان سے سچ کہا۔ القَدَحُ ج
اَقْدَاحٌ: پینے کا برتن، چھوٹے اور بڑے دونوں کے
لئے استعمال ہوتا ہے اور قَدَحٌ خالی برتن کو کہتے ہیں
اور جب اس میں پینے کی کوئی چیز ہو تو اس کو کاس کہتے
ہیں کہا جاتا ہے لاتجعلونی کقدح الراکب: یعنی
مجھ کو آخری مت بناؤ اس لئے کہ سوار سارے سامان کو
رکھنے کے بعد پیالہ کو آخر میں لٹکاتا ہے۔ القَدَحُ الفَرْدُ:
یہ کنایہ ہے لے پالک سے۔ القِدَاحَۃ: پیالہ بنانے
کا پیشہ۔ القَدَّاحُ: پیالہ بنانے والا، پیالہ پکڑنے والا۔
تر و تازہ پودے کے اطراف، نباتات کے شگوفے
(کھلنے سے پہلے)۔

۷۔ اِقْدَحَرَّ اِقْدِحْرَارًا الرجلُ: شرارت، گالی گلوچ یا
لڑائی کے لئے تیاری کرنا۔

○ قَدَحَ ـَ قَدْحًا فی: میں سوراخ کرنا، کو چیرنا۔ ـ فی:
کسی شخص پر بہتان باندھنا، کو بدنام کرنا، رسوا کرنا، پر
تہمتیں دھرنا، کو بدنام کرتے پھرنا، کو ڈانٹنا، جھڑکنا، برا
بھلا کہنا، کی عیب جوئی کرنا، کو قصوروار ٹھہرانا، (گواہ،
گواہی) کو قابل اعتراض قرار دے کر مسترد کرنا۔ ـــ فی
/ ب: کو نقصان پہنچانا، کی قدر و قیمت گھٹانا، کو بے
وقعت کرنا، حقیر سمجھنا، گھٹا کر بتانا، برے لفظوں میں
بیان کرنا، کم کرنا، نگاہوں سے گرانا۔ ـ فی / ب: کے
نام کو بٹہ لگانا۔ ـــ فی: کی خلاف ورزی کرنا، سے
انحراف کرنا، تجاوز کرنا، (قانون) شکنی کرنا۔ قَدَحَ و
قَدَحَ النارَ: چقماق سے آگ جلانا۔ قَدَحَ زناد
الفکر: بغور سوچنا، دماغ پر بہت زور دینا۔ قَدَحَ
فِکرَہٗ: سخت غور کرنا۔ قَدَحَ شررًا: چنگاریاں
نکالنا۔ اِقتَدَحَ واقتدح النار: چقماق سے آگ
جلانا۔ ـــ ہ: کی اہمیت یا قدر و قیمت کا اندازہ کرنا، پر
غور کرنا۔ قِدح جمع قِداح و اَقدُح و اقداح
و اقادیح: تیر کا ڈنڈا، تیر، غیب دان تیر، حکمی فال کا
تیر۔ قَدح: غیبت، بدگوئی، بہتان، جھوٹا الزام، افترا،
رسوائی، ہتک، ازالہ حیثیت عرفی، تذلیل، بدنامی،
الزام، کلنک کا ٹیکہ، ڈانٹ، سرزنش، زجر و توبیخ، الزام،
ملامت، لعن طعن۔ ـــ (فی / ب): بے قدری، ہیکی
تحقیر، رسوائی، خفت قَدَح جمع اَقداح: پینے کا پیالہ،
پیالی، جام، ساغر، گلاس، چائے کا گلاس، خشک اشیاء

ناپنے کا پیمانہ۔ قَدّاح و قَدّاحۃ جمع قَداحات: چقماق، لوہا یا فولاد جسے چقماق سے انگاریاں نکالنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، چقماق اور فولاد، (سگریٹ) لائٹر مِقدَحۃ: لوہا یا فولاد جسے چقماق سے انگاریاں نکالنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہ القِدحُ المُعلّی فی: کیلئے فیصلہ کن اہمیت کا حامل ہونا۔

قدر: ا۔ قَدَرَ ـِ قَدرًا وقُدرۃً ومَقدِرۃً و مَقدَرۃً و مَقدُرۃً و مِقدارًا و قَدارۃً و قُدورۃً و قُدورًا و قِدرانًا و قَدارًا و قِدارًا علی الشیئ: پر قوی ہونا۔ ــــ قَدرًا و قَدَرًا علی الشیئ: پر قدرت رکھنا، کو جمع کرنا، روکنا۔ ــــ اللّٰہَ: اللہ کی تعظیم کرنا۔ قَدِرَ ـَ قَدَرًا و قُدرۃً و مَقدِرۃً و مَقدَرۃً و مَقدُرۃً و مِقدارًا و قَدارۃً و قُدورۃً و قُدورًا و قِدرانًا و قَدارًا و قِدرًا علی الشیئ: پر قوی ہونا۔ و ــــ قَدَرًا علی الشیئ: پر قدرت رکھنا۔ قَدَّرَ علی الشیئ: پر قدرت رکھنا، کو جمع کرنا، بند کرنا۔ ــــ اللّٰہُ فلانًا علی کذا: اللہ کا کسی کو پر قادر بنانا۔ قادَرَ مُقادَرۃً ہ: کا توانائی میں مقابلہ کرنا۔ اَقدَرَ اللّٰہُ فلانًا علی کذا: اللہ کا کسی کو پر قادر بنانا۔ ــــ الانسانُ: ہانڈی میں پکانا۔ اِقتَدَرَ علیہ: پر قوی ہونا، قدرت پانا۔ ــــ الرجُلُ: ہانڈی میں پکانا۔ القادِرُ (فا) مونث قادِرۃٌ: ہانڈی میں پکانے والا، ہانڈی کا پکا ہوا کہا جاتا ہے۔ بَیننا لَیلۃٌ قادِرۃٌ: ہمارے درمیان ایسی رات ہے جس میں چلنا آسان ہے۔ القَدرُ ج اَقدارٌ: طاقت و قوت، مالداری، تونگری، عزت و وقار، حالت القِدرُ ج قُدورٌ اور اس کی تصغیر قُدَیرۃٌ و قُدَیرٌ: ہنڈیا۔ القدرُ ج اَقدارٌ: طاقت و قوت۔ القُدرۃُ: فعل یا ترک فعل کی طاقت۔ قُدرۃ آلیۃ مّا: سیکنڈ میں کام کی مقدار بتانے والا آلہ۔ القُدارُ: ہنڈیا میں پکانے والا۔ القَدارُ و القِدارُ: قدرت۔ القَدارۃُ و القُدورۃُ: (دونوں مصدر ہیں) قوت، اقتدار، مالداری، الاَقدَرُ: اسم تفضیل، مونث القَدراءُ۔ بَنُو قَدراء: مالدار لوگ۔ القَدیرُ: صاحب قدرت، اللہ تعالی کا نام، ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت۔ المِقدارُ ج مَقادیرُ: قدرت۔ المَقدَرۃُ و المَقدُرۃُ و المَقدِرۃُ: قوت، مالداری۔ المُقتَدِرُ (فا): ہنڈیا میں پکانیوالا۔ المَقدورُ (مفع): کہا جاتا ہے۔ امرٌ مقدورٌ علیہ یعنی ایسا امر جس کے کرنے پر انسان قادر ہو۔

۲۔ قَدَرَ ـِ قَدرًا الشیئَ بالشیئ: کو کسی مقدار کے مطابق کرنا، کا سے اندازہ کرنا۔ ــــ الامرَ: کی تدبیر کرنا۔ ــــ لِاَمرِ کذا: پر غور و فکر کرنا، کی تدبیر کرنا، کا قیاس کرنا۔ قَدَّرَ الشیئَ بالشیئ: کا سے اندازہ کرنا، مقدار کے مطابق بنانا۔ ــ الرجُلُ: معاملہ کی درستی اور تدبیر میں غور و فکر کرنا۔ قادَرَ مُقادَرۃً ہ: کا اندازہ کرنا، کا توانائی میں مقابلہ کرنا۔ ــ بین الشیئین: ایک کا دوسرے سے مقدار معلوم کرنے کے لئے اندازہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ فلانٌ یُقادِرُنی: فلاں میرے ساتھ مساوات کا طالب ہے۔ تَقَدَّرَ الثوبُ علیہ: کپڑے کا کی مقدار کے مطابق ہونا۔ تَقادَرَ الرجُلان: ہر ایک کا دوسرے سے مساوات کا طالب ہونا۔ اِقتَدَرَ الشیئَ بالشیئ: کا سے اندازہ کرنا۔ اِنقَدَرَ: اندازہ کے مطابق ہونا، کہا جاتا ہے۔ قَدَرتُ الثوبَ فانقَدَرَ: میں نے کپڑے کا اندازہ کیا تو وہ اندازے کے موافق ہوگیا۔ القَدرُ (مص) ج اَقدارٌ: چیز کی انتہا، چیز کا بغیر کمی و زیادتی کے دوسری کے برابر ہونا کہا جاتا ہے۔ ھٰذا قَدرُ ذاکَ: یہ اس کے مماثل اور مساوی ہے۔ القَدَرُ (مص) ج اَقدارٌ: چیز کی انتہا۔ التَقدیرُ (مص) ج تَقادیرُ عند النحاۃ: کلمہ کو حذف کرنا اور نیت میں باقی رکھنا جیسے اگر آپ سے کہا جائے: مَن مَعَکَ؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ جواب دیں اَخی: میرا بھائی تو اس میں مَعِی کا لفظ لفظوں میں محذوف ہوگا۔ المِقدارُ ج مَقادیرُ: چیز کی انتہا، ایک معروف پیمانہ جس سے کسی چیز کی گنتی، پیمائش یا وزن کا پتہ چل جائے۔ المُقدِّرُ: درختوں یا کھیتی کی مقدار کا تخمینہ لگانے والا (عامیہ)۔

۳۔ قَدَرَ ـِ قَدرًا و قَدَرًا الرزقَ: کو تقسیم کرنا۔ ــ اللّٰہُ علیہ الامرَ: کا فیصلہ کرنا، حکم لگانا۔ ــ علی عیالہ: اہل و عیال پر نان و نفقہ میں تنگی کرنا۔ ــ قَدارۃَ الشیئَ: کو تیار کرنا، کا وقت متعین کرنا۔ قَدَّرَ اللّٰہُ علیہ الامرَ و قَدَّرلہ الامرَ: کا فیصلہ کرنا حکم لگانا۔ ــ علی عیالہ: پر تنگی کرنا۔ تَقَدَّرَ لہ کذا: کے لئے آمادہ ہونا۔ اِستَقدَرَ اللّٰہَ خیرًا: خدا سے نیکی کا حصہ مانگنا۔ لیلۃُ القدر: ماہ رمضان کی آخری دس راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات مثلاً چھبیسویں رات، ستائیسویں رات وغیرہ۔ القَدَرُ ج اَقدارٌ: اللہ تعالی کا کسی چیز کے متعلق فیصلہ اور حکم لگانا۔ تقدیر الہی، ارادہ کا تعلق اشیا کے ... ان کے اوقات میں۔ القَدَرِیّۃُ: ایک جماعت جو تقدیر الہی کا انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بندے اپنے افعال اختیاریہ کے خود خالق ہیں اور جبریہ اس کے برعکس ہے۔ التَقدیرُ ج تَقادیرُ: تقدیر الہی۔ عند المتکلمین: ہر مخلوق کو اس کے اندازہ کے مطابق کرنا۔ المَقدَرۃُ: قضاء و قدر۔ المَقدورُ (مفع): فیصلہ شدہ معاملہ۔

۴۔ قَدِرَ ـَ قَدَرًا: چھوٹی گردن والا ہونا۔ القَدَرۃُ: چھوٹی شیشی۔ الاَقدَرُ: پستہ قد بقول بعض کے نزدیک چھوٹی گردن والا۔

۵۔ القَدرُ ج اَقدارٌ: کندھے کا سرا۔ القُدار: درمیانہ قد مرد ـ (ح): بڑا اژدہا، چست و چالاک لڑکا۔ القَدارُ: پتھر جو پانی بہنے کی جگہ پر لگایا جائے۔ القَدراءُ: کان نہ بڑا نہ چھوٹا۔ المُقتَدِرُ: کام کا ساتھی، ہر چیز کا وسط کہا جاتا ہے۔ رجلٌ مُقتَدِرُ الطُول: درمیانہ قامت کا مرد۔ المُقادَرۃُ: تنگ مکان۔ المُقدَّرُ: ایک پٹی جسے عورت تزئین و آرائش کیلئے لگاتی ہے (عامیہ)۔

(ج) قَدَرَ ـِ قَدرًا ہ: اللہ تعالی کا کو مقسوم میں لکھ دینا۔ ـِ قُدرۃً و مَقدُرۃً و مَقدَرۃً و مَقدِرۃً و قَدِرَ ـَ قَدَرًا: طاقت، قابلیت یا اختیار رکھنا۔ ــ علی: پر قابو رکھنا، کا ماہر ہونا، کے مساوی ہونا، کے قابل ہونا، کچھ کرنے کا امکان رکھنا۔ ــ علی/ان: کچھ کرنے کے قابل ہونا، کی پوزیشن میں ہونا، کا اہل ہونا، کو کرنے جوگ ہونا، کو کر گزرنے والا ہونا۔ قَدَّرَ ہ علی: اللہ تعالی کا کچھ کسی کے لئے مقرر کرنا، مقدر کرنا، ٹھہرانا۔ ــ ہ: اللہ تعالی کا کچھ مقدر کرنا، کا پہلے سے فیصلہ کر دینا، مقرر کرنا۔ ــ ہ: کا اندازہ کرنا، کو جانچنا۔ ــ ہ ب: کا اتنا اندازہ لگانا، کی اتنی تشخیص کرنا، پر اتنا ٹیکس لگانا، کو اتنا شمار کرنا، کی قیمت کا اتنا اندازہ کرنا۔ ــ ہ: متوقع چیز کا اندازہ کرنا، کو پہلے سے بھانپ لینا۔ ــ ان: قیاس آرائی کرنا کہ، فرض کرنا کہ، قیاس کرنا کہ، یقین کرنا کہ، خیال کرنا کہ، کی رائے ہونا کہ۔ ــ ہ/ ہ: کی توقیر کرنا، احترام کرنا، کی قدر کرنا، کو عزیز رکھنا، کی بڑی قدر کرنا، کو آنکھ کا تارا سمجھنا۔ ــ ہ ل: کی میں توقیر کرنا، قدر کرنا، بڑی قدر کرنا، کو میں عزیز رکھنا، آنکھ کا تارا سمجھنا۔ ــ ہ علی: کو کچھ کرنے کا قابل بنانا، کو کچھ کرنے کا اختیار یا طاقت دینا، مجاز بنانا۔ لاقَدَّرَ اللّٰہُ: اللہ نہ کرے۔ قُدِرَ فکانَ: ہو کر رہنے والا ہوگیا۔ قَدَرَہ حقَّ قَدرِہ: کی صحیح قدر کرنا، کی قدر و قیمت کی داد دینا۔ (یہاں ضمیر منصوب شخص یا چیز کے لئے ہے) لا یُقَدَّرُ: بے انداز، بے حد، بہت ہی، انمول، لامحدود، بہت ہی بڑا۔ اَقدَرَہ علی: کو کچھ کرنے کے قابل بنانا، کو کچھ کرنے کی پوزیشن میں کرنا۔ تَقَدَّرَ: مقرر ہونا، معین ہونا، ٹھہرایا جانا، مقسوم میں لکھا جانا، مقدر ہونا، تقدیر کا لکھا ہونا، فیصلہ سنایا جانا۔ اِقتَدَرَ: بمعنی قَدَرَ یَقدِرُ۔ استقدرہُ: اللہ سے طاقت یا صلاحیت طلب کرنا۔ قَدر جمع اَقدار: حد، گنجائش، مقدار، کمیت،

شمار، گنتی، عدد، تعداد، پیمانہ، شرح، رقم درجہ، قیمت، مسلمہ حیثیت، رتبہ، خدائی حکم۔ لیلۃُ القدر : سورۃ ۹۷ کے مطابق وہ رات جس میں قرآن مجید کی وحی ہوئی، یہ رات ۲۶ اور ۲۷ ماہ رمضان کی درمیانی رات کو بتائی جاتی ہے۔ قدرٌ مِن : کی کوئی حد، کا کوئی درجہ۔ قَدْرَ، بِقَدْرِ، علیٰ قَدْرِ : کے حسب حال، کے مناسب، کے مطابق، کے تناسب سے بِقَدْرِ ما : کی حد تک، علی قَدْرِ ما : کسی حد تک، نسبۃً۔ قَدْرَ المُستطاع، بِقدرِ المستطاع علی قدرِ المستطاع، قَدْرَ الطاقۃِ، قَدْرَ الإمکان بقدرِ الامکان اور علی قدرِ الامکان : جہاں تک ممکن ہے، جتنا ممکن ہے، حتی المقدور، مقدور بھر۔ اغلبیۃ قدرُها مائۃُ صوتٍ : ایک سو ووٹوں کی اکثریت ذَوُو قدر : اہم لوگ، ممتاز لوگ۔ قَدَر جمع أقدار : خدا کا ازلی فیصلہ، تقدیر، قسمت، مقدر، قضا، نصیبہ۔ مذهبُ القَدَرِ : تقدیر پر ایمان، مسئلہ جبر۔ القضاء و القدر : قسمت اور خدائی فیصلہ۔ قَضاءً و قَدَرًا، بالقضاء و القدر : قسمت سے، خدائی حکم یا فیصلہ سے، جاءَ علی قَدَرٍ : وہ صحیح وقت پر آ پہنچا۔ القَدَرِیۃ : انسان کے اختیار و ارادہ پر زور دینے والا ایک اسلامی مکتبہ فکر۔ قِدْر (مذکر و مونث) جمع قُدور : ہانڈی، برتن، کیتلی، قِدْرۃ : مندرجہ بالا معانی، قَدَرۃ : چھوٹی بوتل، فلاسک Flask، قُدرۃٌ علی : کی صلاحیت، استعداد، قابلیت، کے لئے اختیار، طاقت ـــ : اثر آفرینی، صلاحیت، قابلیت، لیاقت، مناسبت، (اللہ تعالیٰ کی) قدرت کاملہ۔ القدرۃ علی العمل : طاقت، وسعت، القدرۃ علی الانتقاء : قوتِ انتخاب۔ قَدِیر : قوت والا، اختیار اور قابو والا، طاقت ور، اثر آفرین، ـــ علی : کی پوری مہارت والا، میں کامل، پر پورے غلبہ والا ـــ : قادر مطلق، خدائے قدیر۔ أقدَر : زیادہ طاقت ور، زیادہ اہل، ـــ علی : کا زیادہ اہل، کو کرنے کا زیادہ قابل۔ المَقدُرۃ الحربیۃ : فوجی وسائل، فوجی طاقت۔ مِقدار أدنیٰ : کم سے کم، مِقدار أقصیٰ : زیادہ سے زیادہ۔ بِمقدارِ ما : جتنی حد تک، جتنے درجے تک، جتنا۔ بهذا المقدار : اس حد یا درجہ تک، اتنا بِمقدار : کسی حد یا درجہ تک، کچھ، تقدیرًا : عملاً، درحقیقت، اصل میں، فی الواقع تقدیرًا لهذا : کی قدر دانی یا یادداری کے طور پر، علی أقلِّ تقدیر : بہر حال، بہر صورت، کم از کم علی أکثرِ تقدیر : زیادہ سے زیادہ۔ عن مَبْلَغِ تقدیری : (جہاں تک میں اپنے لئے اندازہ لگا سکتا ہوں۔ فی مقدورہ

أن : کو کرنے کے قابل ہونا، کا اہل ہونا، کی پوزیشن میں ہونا، کا امکان رکھنا۔ مُقدَّرات : قسمتیں، تقدیریں، تخمینے، ابتدائی اندازے۔

قدس : ۱۔ قَدُسَ ـُ قُدْسًا و قُدُسًا : پاک ہونا، بابرکت ہونا۔ قَدَّسَ اللّٰهُ فلانًا : کو پاک کرنا، بابرکت کرنا۔ ـ الرجُلُ اللّٰهَ : اللہ کی تنزیہ کرنا، کے قدوس ہونے کی صفت بیان کرنا ـــ لِلّٰه : اللہ کی پاکی بیان کرنا اللہ کے لئے اپنے آپ کو پاک کرنا کہا جاتا ہے۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ : یعنی ہم اپنے آپ کو تیرے لئے پاک کرتے ہیں۔ ـــ الرجُلُ : بیت المقدس میں آنا۔ ـــ الکاهنُ عند النصاریٰ : عشاء ربانی ادا کرنا۔ تَقَدَّسَ : پاک ہونا۔ القُدسُ (مـــص) : یروشلم، بیت المقدس بعض عیسائی کاتب قدس کو حضرت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں جب وہ علماء دین یا مقابل احترام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں: مثلاً قُدسُ الأبِ العَام۔ کہتے ہیں قُدسُ الأقداسِ عِندَ الیَهودِ : مقدس جگہ یہاں یہودی علماء سال میں صرف ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں۔ حظیرۃ القُدس : جنت۔ القُدُسُ (مص) روحُ القُدُس و الروحُ القُدُس عند النصاریٰ : اقانیم ثلاثہ میں سے تیسرا اقنوم۔ روحُ القُدُس عند المسلمین : حضرت جبریل علیہ السلام۔ القَداسۃُ : پاکی، یہودی عالم کا لقب کہا جاتا ہے۔ قَداسۃ الحبر الاعظم او صاحب القداسۃ۔ القادِسُ : بیت حرام۔ القُدّاسُ ج قَدادِیسُ عند النصاریٰ : عشائے ربانی کی رسم۔ القَدُّوسُ و القُدُّوسُ : اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام یعنی ہر نقص و عیب سے پاک۔ القِدِّیسُ مونث قِدِّیسۃٌ : عند اللہ مقبول، عیسائیوں کے نزدیک ولی، وہ مومن جو طاہر و فاضل کی حیثیت سے وفات پائے (نصرانیہ)۔ المَقدِسُ : مقدس جگہ، بیتُ المَقدِس : قدس شریف کا حرم، (یروشلم میں)، نسبت کے لئے مَقدِسِیّ۔ المُقَدِّسُ (فا) : یہودی عالم، راہب۔ البیتُ المُقَدَّس : بیت المقدس، نسبت کے لئے مُقَدَّسِیٌّ۔ الأرضُ المُقَدَّسۃ : ارض فلسطین ـــ أرضٌ مُقَدَّسۃٌ : مبارک زمین۔

۲۔ القَدَسُ : وہ پتھر جو پانی کی قلت و کثرت معلوم کرنے کے لئے کنویں میں ڈالا جائے، القَدَسُ و القَدْسُ : چھوٹا پیالہ۔ القادِسُ ج قَوادِسُ : بڑی کشتی، اونٹوں کی سیرابی کے لئے پانی میں رکھا جانے والا چھوٹا پتھر۔ القادُوسُ ج قَوادِیسُ : پنچکی میں آنا پیسنے کے لئے دانے ڈالنے کا برتن، عوام اسے کور کہتے ہیں، نہر سے پانی نکالنے کا برتن۔ القُدّاسُ : اونٹوں کے حوض کے پانی کا اندازہ کرنے کا پتھر، چاندی کا بنا ہوا موتی، بڑی شرافت۔ القَدُوسُ : سخت اقدام کرنے والا۔ القَدِیسُ : موتی۔

○ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهُ : اللہ اس کے راز کو مقدس قرار دے، کسی وفات پائے ہوئے مسلمان ولی کا ذکر آنے پر کہا جاتا ہے) قُدّاس جمع قُدّاسات و قَدادِیس : عشائے ربانی کی رسم، نماز یا دعا (مسیحیت میں) قُدّاسۃُ البابا : تقدس مآب پاپائے روم۔ الکتابُ المُقَدَّس : مقدس الہامی کتابیں، بائبل (پرانا اور نیا عہد نامہ)

○ قادِس : جنوب غربی سپین کی بندرگاہ کا نام۔

قدع : ۱۔ قَدَعَ ـَ قَدْعًا الفرسُ : گھوڑے کا دوڑنا ـــ الامرَ : کو کر گزرنا ـــ الخمسین من عمرہ : پچاس سال کی عمر سے تجاوز کرنا۔

۲۔ قَدَعَ ـَ قَدْعًا السفینۃ : کشتی کو پانی میں دھکیلنا ـــ من الشراب : کو گھونٹ گھونٹ پینا۔ تَقَدَّعَ لہ بالشر : سے برائی کے لئے آمادہ ہونا۔ تَقادَعَ القومُ : ایک دوسرے کو دفع کرنا اور کھینچنا، پے در پے مرنا ـــ القومُ بالرماحِ : ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔ ـــ علی الشیئ وفیہ : پر جوق در جوق گرنا کہا جاتا ہے۔ تقادع الذبابُ فی المَرَقِ : شوربے میں مکھیاں پے در پے گریں۔ القَدُوعُ : کسی چیز پر گرنے والا۔

۳۔ قَدَعَ ـَ قَدْعًا فرسَہُ باللجام : گھوڑے کو لگام سے کھینچنا ـــ الذبابَ عنہ بکذا : کسی چیز سے مکھی کو دفع کرنا ـــ ہ عن کذا : کو سے روکنا۔ قَدِعَ ـَ قَدَعًا : رکنا۔ ـــ تْ عینُہُ : زیادہ دیکھنے سے کمزور ہونا، کہا جاتا ہے۔ قَدِعَتْ لِیَ الخمسُونَ : میں تقریبا پچاس سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ قادَعَ بعیرَہُ : اونٹ کا اپنے مالک سے کلیلیں کرنا۔ أقدَعَہُ عن کذا : و سے روکنا۔ الرجلَ : کو گالی دینا۔ تَقادَعَ القومُ : اپنے اپنے مقامات پر واپس آنا۔ اِنْقَدَعَ : ـــ عن الشیئ : سے شرم کرنا۔ القَدَعُ : بزدلی، انکساری مـاءٌ قَدِعٌ : پانی جو کھاری ہونے کی وجہ سے پیا نہ جا سکے۔ امرأۃٌ قَدِعۃٌ : شرمیلی کم بولنے والی عورت۔ القَدُوعُ : ذلیل۔ امرأۃٌ قَدُوعٌ : شرمیلی کم بولنے والی عورت۔ المِقدَعۃُ : مور چھل، مکھی ہانکنے کی چوڑی لاٹھی۔

۴۔ القَدَعُ : زیادہ رونے کی وجہ سے نظر کی کمزوری۔ القَدِعُ :

بہت رونے والا۔ السقذعۃ: چھوٹا سینہ بند۔
المقذع: جھری دار۔
قذف: قَذَفَ ـُ قَذْفًا الماءَ: پانی کا چلو لینا۔ پانی گرانا۔
ــــ ہ: کو کسی حیلہ فراڈ سے اس کی جگہ سے لے جانا
(عامیہ) القَذافُ: مٹی کا گھڑا، پیالہ۔ التقذیف
عند البحریۃ: یہ تقذیف کا محرف ہے اس طرح
المِقذافُ المقداف کا تحریف شدہ ہے۔
قدم: ۱۔ قَدَمَ ـُ قَدْمًا و قُدُومًا القومَ: قوم سے آگے
ہونا۔ قَدَّمَ القومَ: قوم سے سابق ہونا۔ ــ ہ: کو آگے
کرنا۔ ــ ہُ الی الحائط: کو دیوار کے قریب کرنا۔
بین یدیہ: آگے بڑھانا۔ یمینا: قسم کھانا۔ ــ الیہ
بکذا: کو کا حکم دینا۔ اَقْدَمَ فلانا: کو آگے بڑھنا۔ ــ
یمینا: قسم کھانا۔ تَقَدَّمَ: آگے بڑھنا، بہت پیش قدمی
کرنیوالا ہونا۔ ــ القوم: قوم سے سابق ہونا۔ ــ
الیہ بکذا: کو کا حکم دینا، کہا جاتا ہے: فلان یتقدم
بین یدی ابیہ: فلاں اپنے باپ کے سامنے پیش
قدمی کرتا ہے۔ اِقْتَدَمَ بمعنی تَقَدَّمَ: آگے بڑھنا۔
اِسْتَقْدَمَ القومَ: سے آگے کو بڑھ جانا۔
قَادِمُ الرَّحْلِ: کجاوے کا اگلا حصہ۔ ــ الانسان ج
قَوَادِمُ: انسان کا سر۔ القُدُمُ: آگے گزرنے والا،
کہا جاتا ہے مَضٰی قُدُمًا: وہ سیدھا گیا ادھر ادھر نہیں
مڑا، مذکر و مونث دونوں کی صفت میں واقع ہوتا ہے۔
القَدَمُ: آگے بڑھنا، اولیت خواہ خیر میں ہو یا شر میں،
کہا جاتا ہے لِفلان فی کذا قَدَمُ صِدْقٍ او قَدَمُ
سوءٍ: یعنی فلاں کے لئے اس معاملہ میں اچھی اولیت
یا بری اولیت ہے، اور کہا جاتا ہے۔ لفلان عند
فلان قدم: یعنی فلاں کا فلاں پر احسان ہے۔ القِدَمُ
: اولیت کہا جاتا ہے۔ لہ قِدَمٌ فی ہذا الامر: اس کو
اس معاملہ میں اولیت ہے۔ السقُدْمَۃُ: معاملہ میں
اولیت۔ التَقْدِمَۃُ ج تَقَادِمُ: مصدر قَدَّمَ کا۔
القادِمَۃُ: لشکر، قَوَادِمُ اور القُدامٰی کا واحد ہے، بازو
کے اگلے پر، جو بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے پروں کو
خوانی کہتے ہیں۔ جو قوادم کے نیچے ہوتے ہیں۔
قَادِمَۃُ الرَّحْلِ: کجاوہ کا اگلا حصہ۔ قادِمَۃُ العسکر
فوج کا اگلا دستہ۔ السقَدَمَۃُ من الغنم: بکری جو
چرنے میں سب سے آگے ہو۔ القُدامٰی فوج کا اگلا
دستہ۔ قُدَّامُ آگے، مونث ہے اور اس کی تصغیر
قُدَیْدِیمَۃٌ اور کبھی یہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو اس کی تصغیر
قُدَیْدِیمٌ آتی ہے کہا جاتا ہے: لقیتہ قُدَّامَ ذاک و
قدیدیمۃَ ذاک: یعنی میں نے اس سے اس سے پہلے
یا کچھ پہلے ملاقات کی۔ القُدَّامُ و القِدِّیمُ:
شرافت کی وجہ سے لوگوں میں آگے رہنے والا، سردار،
بادشاہ۔ القَیْدُومُ و القَیْدَامُ: اگلا حصہ۔ قَیْدُومُ
الجَبَلِ: پہاڑ کا آگے کو نکلا ہوا حصہ۔ الاَقْدَمُ: اسم
تفضیل۔ التَقْدِمَۃُ ج تَقَادِمُ: ہدیہ۔ المُقْدِمُ ج
مَقَادِیمُ من الرحل: کجاوہ کا اگلا حصہ ــ من
العین: ناک سے ملا ہوا آنکھ کا گوشہ۔ ــ من الوجہ:
چہرے کا وہ حصہ جو سامنے ہو۔ المُقَدَّمُ فی اصطلاح
اہل لبنان: دس بڑے عہدوں میں سے تیسرا عہدہ،
سب سے بڑے عہدہ کا نام امیر پھر خوند پھر مُقَدَّم پھر
شیخ (اع) فوجی عہدہ۔ اس کے متوازی عہدہ کا نام۔
قوماندان۔ ــ عند المنطقیین: یہ صدر قضیہ شرطیہ
ہے جس پر اس کے مابعد قضیے مترتب ہوتے ہیں جیسے
آپ کہیں ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار
موجود: اس سے کم درجہ قضیہ کو تالی کہتے ہیں، ــ ج
مَقَادِیمُ من الرحل: کجاوہ کا اگلا حصہ۔ ــ من
العین: ناک سے ملا ہوا آنکھ کا گوشہ۔ ــ من الوجہ:
چہرہ کا سامنے والا حصہ۔ المُقَدِّمَۃُ: پیشانی، پیشانی
کے بال، موقوف علیہ خواہ عقلی ہو یا عادی یا وضعی جیسے
آپ کہیں کلُّ مرکبٍ فاسدٌ و کلُّ جسمٍ
مرکبٌ فکلُّ جسمٍ فاسدٌ: یہ مقدمہ (مقدمۃ
القیاس) کے نام سے معروف ہے۔ اس پر قضیوں کا
نتیجہ مرتب ہوتا ہے چنانچہ کل مرکبٍ فاسدٌ قضیہ
کبرٰی ہے، کل جسم مرکب قضیہ صغری و کل جسم
فاسد نتیجہ ہے ــ من کل شیٔ: ہر چیز کا شروع۔
و المُقَدِّمَۃُ من الجیش: فوج کا اگلا حصہ، ہراول
ــ من الکتاب: دیباچہ ــ مقدمۃ الرحل کجاوہ کا
اگلا حصہ۔
۲۔ قَدَمَ ـُ قَدْمًا و قُدُومًا و قُدُومًا علی قرنہ: ہمسر پر
جرأت کرنا، دلیری کرنا۔ قَدِمَ ـَ قَدَمًا و قُدُمًا و
قُدُومًا علی قِرْنِہ: ہمسر پر جرأت کرنا۔ ــ علی
الامر: پر بہادری دکھانا۔ اَقْدَمَ علی قِرْنِہ: پر
جرأت کرنا۔ علی الامر: پر بہادری دکھانا۔ تَقَدَّمَ
و اِسْتَقْدَمَ: بہت پیش قدمی کرنے والا ہونا۔ اِقْتَدَمَ
بمعنی تَقَدَّمَ۔ القُدُمُ و القُدْمُ: دلیر کہا جاتا ہے ھُوَ
یَمْشِی القُدُمَ: وہ لڑائی میں آگے آگے رہتا ہے۔
القَدَمُ: بہادر (مذکر مونث، مفرد اور جمع واقع ہوتا ہے)
کہا جاتا ہے رَجُلٌ قَدَمٌ و امْرَأۃٌ قَدَمٌ و رِجَالٌ قَدَمٌ
و نساءٌ قَدَمٌ اور کہا جاتا ہے ھو ذو قدمٍ یعنی وہ
بہادر ہے۔ القَدِمُ: بہت اقدام کرنے والا۔ القُدْمَۃُ:
جرأت۔ الاَقْدَمُ (ح) شیر۔ القَدُومُ ج قُدُمٌ دلیر،
بہت اقدام کرنے والا۔ القُدْمِیَّۃُ مغرورانہ چال، کہا
جاتا ہے فلان یمشی القدمیۃ: یعنی فلاں کی چال
مغرورانہ ہے اور کہا جاتا ہے ھُوَ یَمْشِی القُدُمِیَّۃَ
و الیَقْدُمِیَّۃَ و التَقْدُمِیَّۃَ: وہ جنگ میں دشمن پر پیش
قدمی کرنیوالا اور مکارم اخلاق میں بلند مرتبہ ہے۔
المِقْدَامُ و المِقْدَامَۃُ ج مَقَادِیمُ: بہت زیادہ
اقدام کرنے والا، اس میں تا مبالغہ کے لئے ہے۔
۳۔ قَدُمَ ـُ قِدَمًا و قَدَامَۃً: پرانا ہونا، حدث کی ضد۔
صفت قَدِیمٌ و قُدَامٌ۔ تَقَادَمَ: بمعنی قَدُمَ۔
القِدْمُ: خاندانی شرافت۔ القِدَمُ: پرانا زمانہ۔ کہا جاتا
ہے کان کذا قِدَمًا ایسا پرانے زمانہ میں ہوا
القِدَمُ: حدوث کی ضد۔ قِدَمُ العَالَمِ او اَزَلِیَّۃُ
العَالَمِ: فلسفی مذہب کہ عالم ازلی ہے اس کے وجود کی
کوئی علت نہیں ہے لہذا یہ قدیم ہے۔ القَدِیمُ و القُدَام
ج قُدَمَاءُ و قُدَامٰی و قَدَائِمُ مونث قَدِیمَۃٌ ج
قَدِیمَاتٌ و قَدَائِمُ: پرانا۔
۴۔ قَدِمَ ـَ قُدُومًا و مَقْدَمًا و قِدْمَانًا المدینۃ شہر میں
آنا۔ ــ من سفرہ سفر سے واپس ہونا۔ الی الامر:
کا قصد کرنا۔ اَقْدَمَہُ البلدَ: کو شہر میں آنے پر آمادہ
کرنا۔ اِسْتَقْدَمَ الرجلَ: سے آنے کو کہنا۔ القَادِمُ
ج قُدُومٌ و قُدَّامٌ و قَادِمُونَ (فا)۔ العام القادم:
آئندہ سال۔ القَادِمَۃُ۔ القادم کا مونث۔ المَقْدَمُ:
آنے کا وقت۔
۵۔ قَدِمَ ـَ قُدُومًا و اَقْدَمَ علی العیب: عیب پر راضی
ہونا۔
۶۔ القَدَمُ: سرخ کپڑا۔ القَدَمُ ج اَقْدَامٌ و قُدَّامٌ اسم
تصغیر۔ قُدَیْمَۃٌ: پاؤں (مونث کبھی مذکر بھی آجاتا
ہے) ــ فی القیاس: پاؤں کے انگوٹھے کے کنارے
سے ایڑھی کے کنارے تک، کہا جاتا ہے۔ جَعَلَ
دِمَاءَ ھُمْ تَحْتَ قَدَمَیْہِ: ان کے خون کو اپنے قدم
کے نیچے کر دیا یعنی معاف کر دیا، اور کہا جاتا ہے اِجْعَلْ
ذالِکَ تَحْتَ قَدَمِکَ: اسے اپنے قدم کے نیچے کر دو
یعنی معاف کر دو، اور کہا جاتا ہے وَضَعَ قَدَمَہُ فِی
العَمَلِ: یعنی اس نے کام شروع کر دیا۔ القَدِیمُ (ط
ا): سخت سنگستان۔ القَدَمَۃُ سخت سنگستان۔ القَدَّامُ:
قصاب۔ القَدُومُ و القَدُّومُ ج قُدُمٌ و قَدَائِمُ:
تیشہ، کلہاڑا (مونث)۔
۷۔ القُدَامِسُ: سخت کہا جاتا ہے، عِزٌّ اَوْ حَسَبٌ
قُدَامِسٌ: یعنی پرانا شرف یا حسب۔ القُدْمُوسُ ج
قَدَامِیسُ: پرانا، (کہا جاتا ہے۔ عِزٌّ او حَسَبٌ
قُدْمُوسٌ: یعنی پرانا شرف یا حسب، سخت، بڑی چٹان،
ہراول، لشکر کا اگلا حصہ۔ جَیْشٌ قُدْمُوسٌ: بڑا لشکر۔

القدموسة: بڑی چٹان۔

قدن: القَدَنُ: کافی کہا جاتا ہے۔ قَدْنُ زَیْدٍ دِرْهَمٌ: زید کے لئے ایک درہم کافی ہے۔

قدو: ا۔ قَدَا۔ قُدُوًّا: قریب ہونا، سفر سے واپس ہونا۔ به فرسُهُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ اقدٰی اِقداءً: بوڑھا ہونا اور موت کے قریب پہنچنا۔ ـــ من السفر: سفر سے واپس آنا۔

۲۔ قَدَا۔ قُدُوًّا و قَدِیَ یَقدٰی قَدًی و قَدَاةً و قَدَاوَةً الطعام: کھانے کا مزیدار و خوشبودار ہونا صفت قَدٍ و قَدِیٌّ: آپ کہیں گے۔ شَمِمْتُ قَدَاةَ القِدرِ: میں نے ہنڈیا کی خوشبو کو سونگھا۔ اَقْدٰی اِقْداءً المسك: مشک کی خوشبو کا بھڑکنا۔ القَدَا: خوشبو، کہا جاتا ہے۔ مَا اقدٰی طعَام فلانٍ: یعنی فلاں کا کھانا کس قدر مزیدار و خوشبودار ہے۔

۳۔ اَقدٰی اِقداءً: خیر اور امور دینیہ میں استقامت اختیار کرنا۔ تَقَدّٰی تقدِّیًا علی دابته: چوپایہ پر سوار ہو کر درمیان راستہ میں چلنا۔ ـــ ت الدابة برا کبها: چوپایہ کا سوار کو وسط راستہ پر لیجانا۔ القَدُوی: استقامت

۴۔ اِقتدٰی اِقتداءً بفلان فی کذا: کی میں پیروی کرنا۔ القِدُوج اقْداءٌ: جڑ جس سے شاخیں نکلیں۔ القِدَة والقَدَوَةُ و القِدْوَة و القُدْوَة و القِدْیَة: نمونہ، اسوہ، کہا جاتا ہے۔ لِیَ بِكَ قُدْوَةٌ: میرے لئے تمہاری زندگی میں اسوہ ہے۔

قدی: ا۔ قَدٰی۔ قَدْیًا الطعام: مزیدار و خوشبودار ہونا۔

۲۔ قَدٰی ـــ قَدَیَانًا الفرسُ: تیز رفتار ہونا کہا جاتا ہے قَدَتْ قَادِیَةٌ: قحط زدہ قوم کا دیہات سے آنا۔ قادٰی مُقَاداةً الرجُلَ: سے مقابلہ کرنا۔ القادِیَة ج قَوَادٍ: دیہات سے آنے والی قحط زدہ قوم۔ القِدَة: نمونہ: القِدْیَة: قِدی کا اسم نوع، روش، طریقہ، سیرت کہا جاتا ہے۔ خذفی هِدیتك وقدیتك: اپنی روش و طریقہ کو اختیار کرو۔

۳۔ قَدّٰی نی هذا الامرُ: یعنی یہ مجھے کافی ہے، عوام کہتے ہیں هٰذا یُقَدِّی: یعنی یہ کافی ہے۔ القدٰی و القِدٰی: مقدار، اندازہ، کہا جاتا ہے۔ بینهُمَا قَدٰی رُمحٍ: ان دونوں کے درمیان ایک نیزہ کا فاصلہ مقدار ہے۔ یعنی نیزہ کی لمبائی جتنی دوری ہے۔

۴۔ تقدّٰی: ناز سے چلنا۔ المُتقدِّیُ (فا) (ح): شیر۔

۵۔ القِدَةُ ج قِدَاتٌ (ح): ایک قسم کا سانپ۔

○ قدم: قَدَمَ۔ قَدْمًا و قُدُومَاهُ: سے پہلے یا آگے ہونا۔ قَدِمَ ـــ قُدُومًا وقِدمانا و مَقْدَمًا ہ: کسی جگہ پہنچنا۔ ـــ: آنا۔ ـــ ہ/ علی/ الی: کے پاس پہنچنا۔ ـــ ہ/ علی/ الی: کسی جگہ پہنچنا۔ ـــ علی: کو کرنے کی جسارت کرنا۔ قَدُمَ ـــ قِدَمًا: قدیم ہونا، پرانا ہونا، قَدَّمَ ہ/ ہ: کو پہلے یا آگے کرنا، کے آگے لیجانا، کو آگے چلانا، کو آگے بھیجنا۔ ـــ ہ ل: کو بطور تعارف پیش کرنا جیسے کسی کتاب کا دیباچہ، تمہید، مقدمہ، پیش لفظ۔ ہ/ہ: کو سرفہرست رکھنا۔ ـــ ہ: گھنٹہ آگے کرنا۔ ـــ ہ: کو پہلے کرنا۔ ـــ ہ/ ہ علی: کو سے پہلے برتری دینا۔ ـــ ہ علی: کو پر ترجیح دینا۔ ـــ ہ علی: کو پر ترجیح دینا۔ ـــ ہ علی: کو کیلئے بطور قانونی سرپرست مقرر کرنا۔ ـــ ہ ل: کو کے لئے تیار کرنا، تیار رکھنا، الگ کرنا، مخصوص کرنا۔ ـــ ل: کا سوچنا، کا اہتمام کرنا۔ ہ ل / الی: کوئی چیز کسی کو پیش کرنا، کو پر ظاہر کرنا، کوئی چیز کسی کو دینا، کو کے سپرد کرنا، کو کے پاس بھیجنا، کو کے سامنے رکھنا، کو کوئی چیز بطور تحفہ یا ہدیہ دینا۔ ـــ ہ/ ہ ل / الی: کو کے روبرو پیش کرنا۔ ہ ل / الی: کوئی کتاب کسی کے نام معنون کرنا، کسی کتاب کا کسی کے نام انتساب کرنا۔ ـــ ہ: رپورٹ وغیرہ مسل میں لگانا، ـــ ہ ل/ الی: درخواست وغیرہ کسی کو پیش کرنا، کے سامنے شکایت رکھنا۔ ـــ ہ: جواب دینا۔ ـــ ہ: امتحان دینا۔ ـــ ہ الی / أمام: کو کسی متعلقہ حاکم یا عدالت کے روبرو پیش کرنا۔ ـــ ہ ل/ الی: کا سے تعارف کرانا، کی سے شناسائی کرانا۔ قَدَّمَ (لازم): پہلے یا آگے ہونا، گھنٹہ کا آگے ہونا۔ قَدَّمَهُ بین یدیه: کسی چیز کو دوسری چیز سے آگے بھیجنا، کسی چیز کو دوسری چیز سے آگے ہونے دینا۔ قَدَّم له الثمن: کو پیشگی قیمت ادا کرنا۔ قَدَّم خِدْمَة: کوئی خدمت کرنا۔ ـــ خطوة: ایک قدم آگے رکھنا۔ قَدَّم الشکر لَهُ: کا شکریہ ادا کرنا۔ قَدَّم نفسَهُ اِلی البولیس: خود کو پولیس کے حوالے کرنا۔ ماقدَّمْتُ واَخَّرْتُ: جو کچھ میں نے کیا ہے۔ ماقدّمَتْ یداك؟: تم نے کیا جرم کیا ہے یُقَدِّم رِجلًا ویُؤَخِّرُ اُخری: ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متامل ہونا، پس و پیش کرنا، کوئی فیصلہ نہ کر سکنا۔ فرقُ شهورٍ لاتقدِّم ولاتؤخر: چند ماہ کا فرق جو اہم نہیں ہے اَقْدَمَ: بہادر، نڈر یا بے باک ہونا۔ ـــ علی: کچھ کرنے کی جسارت کرنا، کچھ کرنا، کی جرات کرنا، پر حملہ کرنا۔ تقدّمَ ہ/ ہ/ علی/ عن: سے آگے یا پہلے ہونا، سے آگے جانا۔ ـــ هم / علی: میں سب سے آگے ہونا۔ ـــ: قدیم ہونا۔ ـــ نحو: کی طرف جانا، بڑھنا، باقاعدہ قدم اٹھا کر چلنا۔ ـــ: ترقی کرنا۔ ـــ الی: کے قریب آنا، کو راست میں مخاطب کرنا، کے پاس آنا۔ ـــ بین یدیه/ الی: ـــ ل/ الی: کے روبرو پیش ہونا۔

(کھیلوں میں) مخالف ٹیم سے ملنا۔ یا اس کا سامنا کرنا۔ ـــ الی / ل ب: کو درخواست پیش کرنا۔ ـــ الی ب: کو کا حکم دینا، کو کی ہدایت کرنا، کو کوئی کام سپرد کرنا۔ ـــ به: کو ترقی دینا، بڑھانا۔ تقدمت به السنُّ: عمر رسیدہ ہونا کما تقدَّم: جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ غفرَ اللّٰهُ لهُ ماتقدَّمَ من ذنبه و ما تأخرَ: اللہ نے اس کے تمام گناہ بخش دیئے ہیں۔ وقتُ بغداد مُتقدِّم ساعتین عن وقتِ اور باالوسطٰی: بغداد کا وقت وسطی یورپ کے وقت سے دو گھنٹے آگے ہے۔ تقدَّم نحوه: کے پاس آنا، کے نزدیک ہونا۔ تقدَّم منه: کی جانب بڑھنا، کی طرف جانا۔ تقدَّم للامتحان: امتحان دینا۔ تقادَمَ: پرانا ہونا۔ فرسودہ ہو جانا، متروک ہونا۔ تقویم پارینہ ہونا۔ تقادُم الزمنُ: بہت سا وقت گزر گیا ہے۔ تقادَم عهدُهُ: لیہ بہت پہلے ہوا، اس کا تعلق ماضی سے ہے۔ اِستَقدَمَ ہ: کو آنے کے لئے کہنا، کو بلانا، بلوانا، بلا بھیجنا۔ قِدَم: عرصہ سے گزرا ہوا وقت، زمانہ قدیم۔ قِدَمًا: زمانہ قدیم میں، گزشتہ زمانہ میں، پرانے زمانہ میں، اگلے وقتوں میں، قِدَم: عرصہ سے گزرا ہوا وقت، زمانہ قدیم، عہد رفتہ، عہد پارینہ، بہت ہی پرانا دور، قدامت، ازلیت، اولیت، تقدم۔ مُنذ القِدَم: عہد رفتہ سے، زمانہ قدیم سے، قدیم روایت کے ذریعے سے، دیر سے چلا آتا۔ قِدَم عهدِهِ ب: کے ساتھ اس کی پرانی شناسائی، بے تکلفی یا واقفیت، قَدَم (عموماً مونث) جمع اقدام: پاؤں، پیر، فٹ (12 انچ پیمانہ) قدم، قدم مُکعّبَة: مکعب فٹ۔ سَمْتُ القدَم: سمت النظیر۔ اِصْبَعُ القدَم: پاؤں کی انگلی، علی قدَمیه: بر پا، پیدل۔ علی اطرافِ قدمَیه یا علی الأقدام: پنجوں کے بل۔ علی قدمِ الحذرِ: پریشان، بزدل، ڈرپوک، بودا، ڈرا ہوا، سہا ہوا علی قدم الاهبة و الاستعداد: انتہائی چوکسی کی حالت میں جَرٰی علی قدمٍ وساقٍ یا قام علی قدم وساق: مکمل طور پر موثر ہو جانا، زوروں پر ہونا، پورے زور سے جاری ہونا۔ لیس لهُ قدَم فی: اس کا اس میں کوئی کردار نہیں، وہ اس میں الجھا ہوا نہیں یا ملوث نہیں۔ مَضٰی (سَارَ) قُدُمًا: سیدھا آگے جانا۔ قدیم جمع قُدَمَاء و قُدَامٰی و قَدَائِم: پرانا، قدیم، قدیمی، عتیق، بہت پرانے دور کا، ازلی طور پر پہلے سے موجود۔ ـــ القدیم: اللہ تعالیٰ، قدیمًا یا فی القدیم: پرانے وقتوں میں، زمانہ قدیم میں۔ اگلے وقتوں میں۔ منذ القدیم یا مِن قدیمٍ: پرانے وقتوں ... سے چلا آتا قدیمُ العهد ب:

پرانا شناسا، بے تکلف یا واقف، میں مدتوں کے تجربہ کا حامل، کا طویل عرصہ سے حامل، دراسات قدیمة: کلاسیکی مطالعے۔ قُدُوم: آنا، آمد۔ قَدُوم جمع قُدُم: بہادر، نڈر، دلیر، شجاع، بے خوف، باہمت، جرأت مند، دلاور۔ قَدُوم و قَدُّوم جمع قَدَائِم و قُدُم: بسولہ، تیشہ۔ قُدَّام: سامنے کا حصہ۔ قُدَّامَ: کے سامنے۔ قَيْدُوم: جہاز کا اگلا حصہ۔ اَقْدَم: زیادہ پرانا، زیادہ قدیم الأَقْدَمُون: بہت پرانے لوگ۔ اَقْدَمِيَة: اولیت، سنیارٹی۔ مَقْدَم: آنا، آمد۔ مِقْدَام: بہادر، دلیر، شجاع، نڈر، بے خوف، سٹاف سارجنٹ (فوجی عہدہ) تقديم: آگے بھیجنا، (دیکھو قَدَّمَ) پیشکش، گزارش، مسل میں لگانا، نذر، وقف، تہدیہ، ٹینڈر (نیلام کا) بولی۔ محضر، محضر نامہ جمع تقاديم: سرکاری طور پر مسلمہ سرپرستی (تیونس میں) تَقْدِمَة: پیشکش، ٹینڈر، بولی تہدیہ (سماجی) تعارف، پیشکش، نذر (مسیحیت میں) جمع تقادم: تحفہ، ہدیہ اِقْدَام: بہادری، جسارت، دلیری، بے خوفی، نڈرپن، مضبوط دلی، ہمت، مہم پسندی، مہم جوئی، پہلا قدم، اقدام، پیش قدمی، تَقَدُّم: پیش قدمی، برتری، اولیت، سنیارٹی، فوقیت، پیش قدمی، ترقی، برتری، بڑھنا تَقَدُّمِي: ترقی پسند، ترقی پسندانہ تَقَادُمُ العهد (الزمن): زمانہ کا بڑھنا یا گزرنا مَعَ تَقَادُمِ الزَّمَن: زمانہ کی رفتار کے ساتھ، مُقَدِّم: پیشکش کرنے والا، ٹینڈر دینے والا، دینے والا، پیش کرنے والا معطی۔ قادِم: آنے والا، نووارد، آئندہ (مہینہ وغیرہ) مُقَدِّمُ الطلب: درخواست دہندہ۔ مُقَدَّم: سامنے کا حصہ، جہاز کا اگلا حصہ، ہوائی جہاز وغیرہ کا آگے کو نکلا ہوا حصہ۔ نسبتوں کی مساوات کا مسلمہ اصول، اور سینٹ، سپروائزر، فورمین، منیجر، لفٹیننٹ کرنل، سرکاری طور پر مقرر کردہ سرپرست وقف جائیداد کا ناظم یا متولی۔ مُقَدَّم عليه: قانونی نابالغ جسے سرکاری طور پر مسلمہ سرپرستی کے تحت رکھا گیا ہو۔ مُقَدَّمًا: پیشگی، پہلے ہی سے، قبل از وقت۔ مُقَدِّمَة و مُقَدَّمَة: جمع مقدمات: سامنے کا حصہ، اگلا حصہ، سامنا، ماتھا، رخ، پیش، جہاز کا اگلا حصہ، پیش منظر، سب سے نمایاں حصہ، ہراول، محافظ دستہ، دیباچہ، پیش لفظ، تمہید، مقدمہ، مُتَقَدِّم: پہلے، آگے، آگے بڑھتا ہوا، بہت ترقی یافتہ، آگے، اگلے حصہ میں موجود، پہلا، اول، اہم، مذکورہ بالا، پہلے مذکور، ترقی یافتہ، سینئر (کھلاڑی) المتقدم ذِكْرُهُ: مذکورہ بالا المتقدم في السنّ او في العمر: سن رسیدہ۔ متقدم على اِبَّانِهِ: قبل از وقت، بڑا جلد باز، بے توقع، بے محل الـمُتَقَدِّمُون والمُتَأخِرُون: پہلے اور بعد کے، سب۔

قذّ: ۱۔ قَذَّ ــ قَذًّا الريشَ: تیر کے پر کے اطراف کو کاٹنا اور ہموار کرنا۔ الرجلَ: کی گدی پر مارنا۔ السهمَ: تیر میں پر لگانا ـــ وقَذَّ الشعرَ: بال کاٹنا اور برابر کرنا۔ اَقَذَّ السهمَ: تیر میں پر لگانا۔ تَقَذَّذَ القومُ: قوم کا متفرق ہونا کہا جاتا ہے فلانٌ لَا يَدَعُ شاذةً ولا فاذةً: یعنی وہ بہادر ہے جسے دیکھتا ہے مار ڈالتا ہے۔ القُذَّة ج قُذَذ و قِذَاذ: انسان یا گھوڑے کا کان، تیر کا پر۔ القُذَاذَة ج قُذَاذَاتٌ: پر کا تراشہ سونے وغیرہ کا ریزہ، کہا جاتا ہے۔ اِنَّ لِي قُذَاذَاتٍ و جُذَاذَاتٍ۔ القُذَاذَاتُ: سونے کے ٹکڑے اور جُذَاذَاتٍ: چاندی کے ٹکڑے۔ القُذَّانُ: بڑھاپے کی وجہ سے دونوں طرف کنپٹی کی سفیدی، پرندہ کے بازوؤں کی سفیدی۔ سَهْمٌ اَقَذُّ: پروں والا تیر ج قُذٌّ جمع قِذَاذٌ (ضد): بے پر کا تیر، کہا جاتا ہے مَالَهُ اَقَذُّ وَلا مَرِيشٌ: یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ المَقَذُّ: گدی، سر کے بالوں کے نکلنے کی انتہائی جگہ پیچھے یا آگے یا پیچھے کی طرف، سر کے بالوں کے کاٹنے کی جگہ۔ المِقَذُّ المِقَذَّة: پر تراشنے کا آلہ، چھری وغیرہ۔ المُقَذَّذُ و المَقْذُوذُ: بال تراش کر ہموار کیا ہوا۔ ہر ہموار چیز، آراستہ وپیراستہ۔ المُقَذَّذَة و المَقْذُوذَة: گول کان۔

۳۔ قَذَّ ــ قَذًّا الحجرَ و كلَّ غليظٍ: پتھر اور ہر قسم کی سخت چیز پھینکنا۔

۴۔ القُذَّةُ ج قِذَّانٌ (ح): پسو۔ القُذُّ (ح): پسو۔

قذح: قَاذَحَ مُقَاذَحَةً هُ: کو گالی گلوچ کرنا۔ تَقَذَّحَ لفلانٍ بالشر: کے ساتھ شرارت کرنا۔

○ اِقْتَدَى ب: کسی شخص یا چیز کی نقل کرنا ـــ ب: کی ریس کرنا، کی ہمسری کی کوشش کرنا، کے نقش قدم پر چلنا کی پیروی کرنا، قُدْوَة و قِدْوَة: نمونہ، نقش، عمدہ مثال یا اچھا نمونہ۔ قَدِي: مزیدار، لذیذ، چٹپٹا، خوش ذائقہ (کھانا)۔ اِقتداء: نقل، ریس، ہمسری کی کوشش ـــ ب: کے نمونہ یا مثال کی پیروی۔

○ حَذْوَ القُذَّةِ بِالقُذَّة: بالکل ہو بہو، بالکل ویسا ہی مغالطہ آمیز ایک سا۔

قذر: ۱۔ قَذِرَ ــ قَذَرًا و قَذَارَةً: گندا ہونا میلا ہونا صفت قَذْرٌ و قَذِرٌ و قَذَرٌ و قَذُرٌ ـ قَذِرًا الشيءَ: کو گندا کرنا۔ قَذُرَ ــ قَذَرًا و قَذَارَةً: گندا ہونا، میلا ہونا صفت قَذْرٌ و قَذِرٌ و قَذَرٌ و قَذُرٌ۔ قَذِرَ ــ قَذَرًا و قَذَارَةً: گندا ہونا ـــ قَذَرًا الشيءَ: کو گندا کرنا، مکروہ جاننا، سے پرہیز کرنا، کو گندا سمجھنا۔ قَذَّرَ الشيءَ: کو گندا کرنا۔ اَقْذَرَهُ: کو گندا پانا ـ فلانًا: کو تنگ دل کرنا۔ تَقَذَّرَ الشيءَ و منه: کو میل کچیل کی وجہ سے مکروہ جاننا۔ اِسْتَقْذَرَ الشيءَ: کو گندا سمجھنا میل کچیل کی وجہ سے مکروہ جاننا۔ القَذَرُ (مص) ج اَقْذَارٌ و مَقَاذِرُ على غير القياس: میل کچیل، کبھی پاخانہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ رَجُلٌ قُذَرَةٌ: ملامت سے دور مرد۔ القَاذُورَةُ ج قَاذُورَاتٌ: بدکار عورت جیسے زانیہ۔ ـــ والقَاذُورُ و ذو قاذورة: جو بدخلقی کی وجہ سے لوگوں سے نہ ملے، جو کسی چیز کو بوجہ نفرت کے نہ کھائے۔ القَذُورُ بمعنی القاذور ـ من النساء: مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی عورت یا شک وشبہ سے دور، رَجُلٌ مَقْذَرٌ ج مَقَاذِرُ: مرد جس سے لوگ پرہیز کریں المَقَاذِرُ: گندگیاں۔ المُقْذِرُ ج مُقْذِرُونَ: فواحش کا ارتکاب کرنے والا۔

۲۔ القُذْرُوفُ قُذَارِيفُ: عیب۔

○ قَذَر: میل، ناپاکی، جمع اَقْذار: گند، گندگی، غلاظت، خستگی، زبوں حالی۔ قَذِر و قَذْر: گندا، میلا، ناپاک، غلیظ، گھناؤنا۔ قَذُور: نازک مزاج، نازک طبع۔ ناپاک۔ قَذَارَة: گندگی، میلاپن، ناپاکی۔ قاذُورة جمع قاذورات: گند، غلاظت، خستگی، گندگی، میلا، کوڑا کرکٹ، آخور، (اخلاقی) آلودگی۔ مَقَاذِر: گندی چیزیں، گند، غلاظت۔

قذع: ۱۔ قَذَعَ ـ قَذْعًا هُ: کو گالی دینا، سے بے ہودہ بکنا۔ قَذَّعَ ثوبَهُ: کپڑے کو گندا کرنا، میلا کچیلا کرنا۔ قَاذَعَ هُ: سے گالی گلوچ کرنا۔ اَقْذَعَ فلانًا: کو گالی دینا اور اس سے بے ہودہ بکنا ـــ لفلانٍ: کو سخت سست کہنا ـــ القولَ: برا کہنا۔ الرجلُ: فواحش کا ارتکاب کرنا۔ تَقَذَّعَ له بالشر: سے برائی کی تیاری کرنا۔ سے برائی کرنے کی تیاری کرنا۔ القَذَعُ: گندا، بے حیائی، فحاشی ـــ و القَذِيعُ و الاَقْذَعُ: قبیح، بدخلق، قول یا جواب میں حد سے گزرنے والا القَذِعُ: گندگی والا۔ بے حیا القَذِيعَة: گالی گلوچ، قبیح قول یا فعل کہا جاتا ہے رَمَاهُ بالمُقْذِعَاتِ او المُقْذِعَاتِ: اس نے اس پر فواحش کی تہمت لگائی۔

۲۔ تَقَذَّعَ الرجلُ: ناپسند کرنا۔

۳۔ القُذَعْمِلُ: موٹا اونٹ۔ القُذَعْمِلَة: پست قامت خسیس عورت، کہا جاتا ہے۔ مَاعِنْدَهُ قُذَعْمِلَةٌ: اس کے پاس کچھ نہیں۔ مَافِي السَّمَاءِ قُذَعْمِلَةٌ: آسمان میں کچھ بھی بادل نہیں۔

○ قَذَعَ ـ قَذْعًا هُ: کو بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا، کو بدنام کرتے پھرنا ـــ چغلی کھانا، بدنامی کرنا، بہتان

تراشی کرنا۔

قذف :ا۔ قَذَفَ ـِ قَذْفًا: قے کرنا۔ المَلاحُ: چپو سے کشتی چلانا ۔۔۔ بقوله: بغیر سوچے سمجھے بک دینا۔ ۔الحجرَ و بالحجر: پتھر پھینکنا۔۔۔ هُ بكذا: پر کی تہمت لگانا۔۔۔ فلاناً بالحجر: کو پتھر مارنا۔۔۔ الرجُلَ: پر شک سے تہمت لگانا۔ قاذَفَ هُ: ایک دوسرے پر تہمت لگانا اور ایک دوسرے کو گالی دینا۔ تَقاذَفَ الماءُ: پانی کا تیز بہنا۔ الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ القوم: آپس میں گالی گلوچ کرنا۔ القومُ بالحجارة: ایک دوسرے پر پتھر پھینکنا ۔۔۔ ت به الامواجُ: کو تھپیڑے مارنا اور کہا جاتا ہے۔ تَقاذَفَتْ بهِ الاَبْوابُ: کو دروازوں نے دھکا دیا یعنی کوئی شخص کسی دروازے میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ مالک مکان نے دروازہ بند کر دیا اور وہ شخص دوسرے دروازہ پر جانے پر مجبور ہوا اور وہاں بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ اِنْقَذَفَ: پھینکا جانا۔ اِسْتَقْذَفَ فلانا بالحجر: کو پتھر مارنا ۔۔۔ الرجُلَ: پر کی تہمت لگانا۔ القاذِفُ (قا) کہا جاتا ہے: هُمْ بَيْنَ حاذِفٍ و قاذِفٍ: وہ لوگ ڈھیلا پھینکنے والے اور لاٹھی مارنے والے کے درمیان میں ہیں۔ ناقَةٌ قاذِفٌ: تیز دوڑنے والی اونٹنی کہ اونٹوں سے دوڑنے میں آگے نکل جائے۔ القاذِفَةُ ج قاذِفاتٌ: بمبار طیارہ۔ القاذُوفُ (اع): چھوٹی توپ۔ القُذُفُ: پھسلن کی جگہ۔ و القَذُوفُ: دور کہا جاتا ہے۔ فَلاةٌ اونِيَّةٌ قُذُفٌ: دور کا بیابان۔ بَلْدَةٌ قُذُوفٌ: دور دراز کا شہر۔ قَوْسٌ قَذُوفٌ: تیر کو دور پھینکنے والی کمان۔ ناقَةٌ قُذُوفٌ و قَذُوفٌ: دوڑنے میں اونٹوں سے آگے نکل جانے والی اونٹنی۔ القَذَفُ: پھسلن کی جگہ، دور کہا جاتا ہے۔ فَلاةٌ اونِيَّةٌ قَذَفٌ: دور کا بیابان۔ القِذافُ: ہر وہ چیز جو پھینکی جائے، تیز روی۔ ناقَةٌ قِذافٌ: تیز دوڑنے والی اونٹنی۔ القَذّافُ اسم مبالغہ منجنیق ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کو دور تک پھینکا جائے، سواری۔ القَذِيفُ: دور ۔۔۔ (اع): میزائل۔ القَذِيفَةُ: ہر وہ چیز جو پھینکی جائے اس سے ہے قذائف المدافع و الطائرات: توپ کے گولے، وہ بم جسے جہاز دشمن پر گراتے ہیں۔ ۔القَذِيفَةُ اليَدَوِيَّةُ: ہینڈ گرنیڈ یا دستی بم۔ المِقْذَفُ ج مَقاذِفُ۔ المِقْذافُ ج مَقاذِيفُ: چپو۔ المَقاذِفُ: ہلاکتیں۔ المُقَذَّفُ: لعنت کیا ہوا، کہا جاتا ہے۔ فارِسٌ مُقَذَّفٌ: جنگ آزمودہ شہسوار۔ فَرَسٌ مُتَقاذِفٌ: تیز رفتار گھوڑا۔ سَيْرٌ مُتَقاذِفٌ: تیز چال۔

۲۔القُذْفُ و القَذَفُ و القُذُفُ: جانب، گوشہ۔ القُذْفَةُ ج قِذافٌ و قُذَفٌ و قُذُفٌ و قُذُفاتٌ: جانب گوشہ، کنگرہ، پہاڑ کا گوشہ جو نکلا ہوا ہو۔ اَقْذافُ القَصْرِ: محل کے کنگرے۔ القَذّافُ: تھوڑا پانی۔ القَذّافُ: ترازو۔ المُقَذَّفُ: پر گوشت۔

قذل: ا۔ قَذَلَ ـُ قَذْلًا هُ: کی گدی پر مارنا۔ القَذالُ ج قُذُلٌ و اَقْذِلَةٌ: گدی، سر کا پچھلا حصہ۔

۲۔ قَذَلَ ـُ قَذْلًا هُ: پر عیب لگانا۔ القَذَلُ: عیب۔

۳۔ قَذَلَ ـُ قَذْلًا هُ: کا پیچھا کرنا ۔۔۔ في الامر: میں کوشش کرنا۔

۴۔ قَذَلَ ـُ قَذْلًا فلانٌ: برگشتہ ہونا اور ظلم کرنا۔

قذم: ا۔ قَذَمَ ـُ قَذْمًا له من المال: کو مال یک بارگی دینا۔ قَذِمَ ـَ قَذَمًا الماءَ: پانی کا گھونٹ لینا۔ القُذَمُ: بہت دینے والا سردار۔ القُذْمَةُ: پانی کا گھونٹ۔ القِذَمُّ: بہت دینے والا سردار ۔۔۔ و القُذامُ من الآبار: بہت پانی والا کنواں۔ بئرٌ قَذُومٌ ج قُذُمٌ: بہت پانی والا کنواں۔ القَذِيمَةُ ج قَذائِمُ: مال کا ایک حصہ جو آدمی کسی کو دے۔

۲۔ اِنْقَذَمَ: تیز دوڑنا۔

○ قَذَفَ ه/ب: کو پھینکنا، بے کار سمجھ کر پھینک دینا، ترک کر دینا، زور سے پھینکنا، اچھالنا ۔۔۔ ا/ ه/ب: کو زور سے پھینکنا، دھکیلنا، ٹھیلنا ۔۔۔ ه/ب: (کشتی) کھینا، (کچھ) نکالنا، چھوڑنا۔ ہ/ ه/ب: کو نکالنا، نکال باہر کرنا، خارج کرنا۔ ہ/ب: کو بے دخل کرنا، نکال دینا، ۔ب: کچھ گرانا۔ ہ/ ه ب: پر کچھ پھینکنا ۔۔۔ ہ ب: کو کا الزام دینا، پر کی تہمت لگانا ۔۔۔ ہ: کو بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا ۔۔۔ قے کرنا۔ قَذَفَ ہ بالقنابل: پر بم مارنا قَذَفَ عليه الشتائمَ: کے خلاف فحش زبان استعمال کرنا۔ قَذَّفَ: چپو چلانا، کشتی کھینا۔ تَقاذَفَ ب: ایک دوسرے پر کچھ پھینکنا ۔۔۔ ه: کو آگے پیچھے پھینکنا ۔۔۔ ہ/ ب: کو ادھر ادھر دھکیلنا۔ تَقاذَفَتْ به الامواجُ: موجوں سے ادھر ادھر اچھلنا۔ اِنْقَذَفَ: پھینکا جانا، اچھلنا، پٹخنا، ڈالا جانا قَذْف: بدنامی، تہمت، بہتان، جھوٹا الزام۔ القذف بالقنابل: بمباری۔ طائرةُ قذف القنابل: بمبار طیارہ۔ قَذْفِي: بدنام کن، ہتک آمیز، افترا پرداز۔ طيارة قَذّافَة: بمبار طیارہ۔ قَذِيفَة جمع قَذائِف: گولی، گولا، بم، فتیلہ، بم کی بتی قذيفة نسّافة: آبدوز گولہ، تارپیڈو (Torpedo) قذيفة يدَوية: دستی بم۔ مِقْذاف جمع مَقاذِف و مقاذيف: چپو۔ تقذيف کشتی کھینا، چپو چلانا۔ قاذِفَةُ القنابل جمع قاذفات القنابل: بمبار طیارہ۔ قاذِفَةُ اللَّهَب یا قاذفة النار: شعلے اگلنے والی کل، آگ اگلنے والی کل۔ مَقْذُوف جمع مَقاذِيف و مَقْذُوفَة جمع مَقْذُوفات: میزائل (Missile) گولہ، گولی۔

قذی: ا۔ قَذَى ـِ قَذْيًا و قَذًى و قُذِيًّا و قَذَيانًا ت عينُهُ: آنکھ کا کیچڑ نکالنا۔ قَذِيَ ـَ قَذًى و قَذَيانًا و قُذِيّات عينُهُ: آنکھ میں تنکا پڑنا صفت قَذِيَةٌ و قَذِيَّةٌ و مَقْذِيَّةٌ ۔۔۔ الشرابُ: پینے کی چیز میں تنکا پڑنا۔ قَذّى ۔ عينَهُ: آنکھ سے خس و خاشاک نکالنا۔ اَقْذَى عينَهُ: آنکھ میں خس و خاشاک ڈالنا۔ اِقْتَذَى الطائرُ: سر کھجلاتے ہوئے آنکھ سے تنکا نکالنا۔ القَذَى ج قُذِيٌّ و اَقْذاءٌ و القَذاةُ: آنکھ یا پینے کی چیز میں گرا ہوا تنکا، خس و خاشاک وغیرہ، کہا جاتا ہے۔ فُلانٌ يُغْضِي عَلَى القَذَى: یعنی فلاں ظلم برداشت کرتا ہے شکایت نہیں کرتا۔ صارَ الامْرُ قَذًى فِي عَيْنِهِ: یعنی معاملے نے اسے تکلیف پہنچائی اور اس نے اس کے ازالے کی کوشش کی۔ م یوں کی مثال ہے۔ يُبْصِرُ اَحَدُكُمُ الْقَذَى فِي عَيْنِ اَخِيهِ وَيَعْمَى عَنِ الْجِذْعِ فِي عَيْنِهِ: دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ میں شہتیر نہیں دیکھتا یعنی دوسرے کے تو چھوٹے چھوٹے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے مگر اپنے بڑے بڑے عیوب کو نظر انداز کرتا ہے۔ القِذَى ج قُذِيٌّ و اَقْذاءٌ: باریک خاک۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ قَذِي العين: وہ شخص جس کی آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہو۔

۲۔ قَذَى ـِ قَذْيًا و قَذًى و قُذِيًّا و قَذَيانًا ـُ قادِيَةٌ: لوگوں کی جماعت آئی۔ القَوادِي واحد قادِيَةٌ: جو سب سے پہلے تمہارے پاس آئے۔ الاَقْذاءُ: گھٹیا لوگ۔

۳۔ قاذَى مُقاذاةً الرجُلَ: کو بدلہ دینا۔

○ اَقْذَى عينَهُ: کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، دق کرنا، قَذًى واحد قَذاة: آنکھ یا پینے کی چیز میں پڑنے والی کوئی چیز، (گرد کا) ذرہ یا گندگی جو سیال یا مائع کی سطح پر تیر رہی ہو۔ آنکھ میں کوئی خارجی چیز۔ قَذًى في عينه: آنکھ کا کانٹا، خار۔ اَغْضَى علي القذى: پریشانی کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا، کھسیانی ہنسی ہنسنا اور اسے برداشت کرنا۔ زہر کا گھونٹ پی کر خاموش رہنا یا زہر کا گھونٹ پی کر رہ جانا۔ غَمَّضَ جفونَهُ علي القذى: بمعنی بالاِقْذَى جمع اقذاء: نچلی گرد۔ جمع اَقْذاء: ہوا میں تیرتے ہوئے ذرات۔

قرّ: ا۔ قَرَّ ـِ قَرَّ اليومُ: دن کا ٹھنڈا ہونا۔ قَرَّ ـَ قُرَّةً و قَرَّةً و قُرُورَةً ت عينُهُ: خوشی کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہونا۔ شخص کی صفت قريرُ العين اور عَيْنٌ کی

صفت قَرِیْرَۃٌ۔ قَرَّ ـُ قَرًّا القِدْرَ: ہانڈی میں ٹھنڈا پانی ڈالنا۔ ـــ علیہ الماءَ: پر ٹھنڈا پانی ڈالنا، کہا جاتا ہے قَرَّ الکَلَامَ فِیْ اُذُنَیْہِ: اس نے کے کان سے منہ لگا کر بات کی۔ قُرَّ ـُ قَرًّا و قِرًّا: کو سردی لگنا۔ اَقَرَّ اِقْرَارًا: ٹھنڈک میں داخل ہونا۔ ـــ اللّٰہُ الرجلَ: کو سردی پہنچانا، سردی زدہ کو خلاف قیاس مُقْرُوْرٌ کہتے ہیں اور مُقَرٌّ نہیں کہا جاتا۔ ـــ اللّٰہُ عینَہٗ و بعینِہٖ: کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا یعنی خواہش کے مطابق دینا اور کامیاب کرنا۔ تَقَرَّرَ القُرَّۃَ: ہانڈی کی چمٹی ہوئی چیز کو لینا اور سالن بنانا۔ اِقْتَرَّ الرجلُ: ہانڈی کی چمٹی ہوئی چیز کو لینا اور سالن بنانا، ٹھنڈے پانی سے نہانا۔

القَارُّ (فا)۔ یَوْمٌ قَارٌّ: ٹھنڈا دن۔ مثال ہے وَلِّ حَارَّھَا مَنْ تَوَلّٰی قَارَّھَا: یعنی جو بھلائی کا مزہ لیتا رہا اسے اب برائی چکھاؤ یا جو تجھ سے نفع حاصل کرتا رہا اس سے اب اپنا بوجھ اٹھواؤ۔ القَارَّۃُ: القار کی مونث۔ عَیْنٌ قَارَّۃٌ: ٹھنڈی آنکھ، یا کنایہ ہے مسرور ہونے سے۔ القُرُّ: سردی۔ یَوْمٌ قَرٌّ: ٹھنڈا دن۔ لَیْلَۃٌ قَرٌّ: ٹھنڈی رات۔ القِرَّۃُ (مص) کہا جاتا ہے۔ ھُوَ قُرَّۃُ عَیْنِیْ: وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ و قُرَّۃُ العَیْنِ: (ن) ایک قسم کی گھاس جو پانی بہنے کی جگہ ہوتی ہے یہ جرجیر کے علاوہ ہے کیونکہ جرجیر کڑوی اور یہ میٹھی ہوتی ہے۔ اَبُوْقُرَّۃَ: گرگٹ کی کنیت کیونکہ اس پر سردی کا بہت غلبہ رہتا ہے اس لئے وہ ہمیشہ آفتاب کے سامنے رہتا ہے۔ لَیْلَۃٌ قَرَّۃٌ: ٹھنڈی رات۔ القَرَّتَانِ: صبح و شام۔ القِرُّ: ٹھنڈک۔ عربوں کی مثال ہے حِرَّۃٌ عَلٰی قِرَّۃٍ: اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ضمیر کے خلاف ظاہر کرے۔ القَرَرَۃُ والقِرَارَۃُ والقُرَارَۃُ والقُرَارَۃُ و القُرُوْرَۃُ: پانی جو پکا لینے کے بعد ہانڈی میں ڈالا جائے تاکہ جلنے نہ پائے۔ الاَقَرُّ: اسم تفضیل، کہا جاتا ہے اَیُّ الاَیَّامِ اَقَرُّ: کون سا دن زیادہ ٹھنڈا ہے۔ القَرُوْرُ: ٹھنڈا پانی۔ المَقْرُوْرُ: ٹھنڈا، سردی زدہ۔

۲- قَرَّ ـِ قَرَارًا و قُرُوْرًا و قَرًّا و تَقْرَارًا و تَقِرَّۃً فی المکان او علی الامر: کام پر ثابت قدم رہنا۔ جگہ میں ٹھہر جانا۔ قَرَّرَہٗ فی المکان او علی العمل: کو جگہ میں ٹھہرانا، کام پر ثابت قدم رکھنا کہا جاتا ہے۔ قَرَّرْتُ عِنْدَہُ الخَبَرَ حَتّٰی اسْتَقَرَّ: یعنی میں نے اس کے پاس خبر کو ثابت کر دیا۔ ـــ ہٗ بالامر: سے کا اقرار کرانا۔ ـــ ہ علی الحق: سے حق منوانا۔ قَارَّ مُقَارَّۃً فی الصلوٰۃ: نماز میں سکون اختیار کرنا۔ حرکت نہ کرنا۔ ـــ الرجلَ: کی موافقت کرنا۔ اَقَرَّ اِقْرَارًا فلانًا فی المکان: کو جگہ میں ٹھہرانا۔ ـــ العاملَ علی العمل: مزدور کو کام پر باقی رکھنا۔ ـــ الرجلُ: ٹھہرنا، تابعدار ہونا۔ ـــ بالحق: کو مان لینا، کا اقرار کرنا۔ ـــ الکلامَ لہٗ: سے کو بیان کرنا۔ ـــ القِدْرَ: ہانڈی سے چمٹی ہوئی چیز کو اتارنا۔ ـــ الطائر فی عُشِّہٖ: پرندے کو گھونسلے میں باقی رکھنا۔ ـــ تِ الناقۃُ: اونٹنی کا حمل ٹھہرنا صفت مُقِرٌّ۔ تَقَرَّرَ: ثابت ہونا۔ تَقَارَّ فی المکان: میں ٹھہرنا اور ثابت رہنا۔ اِقْتَرَّ فلانًا فی العمل و علیہ: کو کام پر باقی رکھنا۔ اِسْتَقَرَّ بالمکان: میں ٹھہرنا، ثابت رہنا۔ القَارَّۃُ عند اھل الجغرافیا: براعظم جیسے براعظم ایشیا، براعظم یورپ اور براعظم امریکا۔ المَقَرُّ: کسی جگہ میں قرار، ٹھہرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ وَقَعْتَ بِقُرِّکَ: یعنی جس چیز کے تم خواہشمند تھے اور اس کے لئے کوشاں، تم نے اسے پالیا مثلاً طالب قصاص کو کہا جاتا ہے جب وہ قصاص لے لے۔ القُرُّ (مص) مردوں کی سوار ہونے کی جگہ جو کجاوہ اور زین کے درمیان ہوتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک ہودج کو کہتے ہیں۔ یَوْمُ القَرِّ: یوم النحر سے اگلا دن، جس میں حجاج منی میں قیام کرتے ہیں۔ (۱۱) ماہ ذوالحج) القُرَّۃُ و القَرَرَۃُ و القُرُرَۃُ و القُرَارَۃُ: ہانڈی کی تلی میں جو لگ جائے، ہانڈی کی کھرچن۔ القِرَّۃُ: قَرَّ کا اسم نوع۔ القَرَارُ: کسی مسئلہ میں جس پر رائے ٹھہرے، ٹھہرنے کی جگہ، سکون و اطمینان حاصل کرنے کی جگہ، کہا جاتا ہے صَارَ الاَمْرُ اِلٰی قَرَارِہٖ: یعنی معاملہ انتہا کو پہنچ گیا۔ (مو) قطعہ کا سر جہاں پہنچ کر گلوکار آواز ختم کر دیتا ہے۔ اَھْلُ القَرَارِ: شہری لوگ کہ وہ اپنے مکانوں میں قیام کرتے ہیں برخلاف بدیوں کے کیونکہ وہ خانہ بدوش ہوتے ہیں۔ دَارُ القَرَارِ: دار آخرت۔ القَرَارَۃُ: ٹھہرنے کی جگہ، سکون و اطمینان حاصل کرنے کی جگہ، گول گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔ القَرَارِیُّ: درزی، قصاب، شہری جو کسی کا احسان نہ لے۔ القَرَایِرِیُّ عند العامۃ: شہر میں رہائش پذیر یہ قراری کا تحریف شدہ ہے۔ القَارُوْرَۃُ ج قَوَارِیْرُ: شراب، خوشبو وغیرہ کا برتن، آنکھ کا ڈھیلا، کیونکہ یہ بھی صاف شفاف ہونے میں شیشے کی بوتل جیسا ہوتا ہے انسان غور کرے تو اسے آنکھ کے ڈھیلے میں اپنا عکس نظر آتا ہے، تازہ یا خشک کھجوروں کا برتن۔ الاِقْرَارُ (مص) شرعًا: ایک پر دوسرے کے شرعی حقوق بتانا۔ التَقْرَارُ و التَقِرَّۃُ (مص): ثبوت، سکون۔ المَقَرُّ ج مَقَارُّ و المُسْتَقَرُّ: رہنے کی جگہ۔ مَقَرُّ البئر: کنویں کی تلی میں گڑھا جس میں پانی جمع ہوتا ہے۔ المَقَرَّۃُ: پانی کا حوض، گڑھا۔

۳- قَرَّ ـِ قَرِیْرًا ت الحیۃُ: سانپ کا پھنکارنا۔ ـــ قَرًّا و قَرِیْرًا ت الدجاجۃُ: مرغی کا کڑکڑاہٹ بند کرنا۔ القُرُّ: پانی پر تیرنے والا ایک لمبا کیڑا جو ایسی آواز نکالتا ہے جیسے کہہ رہا ہو قُرْقُرْ: عام لوگ اسے حَبُّ القُرِّ کہتے ہیں۔ القَرَّۃُ و القُرَّۃُ و القِرَّۃُ (ح): مینڈک۔

۴- تَقَرَّرَ و اِقْتَرَّتِ الابلُ: آسودہ ہونا، بہت موٹا ہونا۔

۵- قَرُّ الثَّوْبِ: کپڑے کی تہہ۔ القَرَارَۃُ: چھوٹا قد۔ القُرّٰی: تخمی جو پرہیز کرنے کے باوجود واقع ہو۔

○ قَرَّ ـِ قَرَارًا فی / ب: میں یا کسی جگہ میں رہنے لگنا، آباد ہونا، رہائش پذیر ہونا، آرام کرنا، رہنا، ٹھہرنا، دیر کرنا، دیر لگانا، قَرَّ الرایُ علی: کا فیصلہ ہونا، پر فیصلہ پہنچنا، پر قرار داد پاس ہونا یا بدیں معنی و مفہوم قرار داد پاس ہونا۔ قَرَّ رایُہٗ علی: کا ارادہ کرنا، فیصلہ کرنا۔ لا یقرلہ حال: متلون مزاج ہونا لا یقرلہ قرار: بے چین ہونا، بے تاب یا بے قرار ہونا، پس و پیش کرنا، متذبذب ہونا۔ قَرَّ ـَ قَرًّا: ٹھنڈا ہونا، سرد ہونا، ٹھنڈے دل و دماغ کا ہونا۔ قَرَّ عَیْنًا: امید قائم رکھنا۔ قَرَّتْ عینُہٗ ب: پر خوش ہونا، مسرور ہونا۔ قَرَّرَہٗ فی: کو میں یا کسی جگہ میں آباد کرنا، بٹھائے رکھنا۔ ـــ ہ فی: کو میں قائم کرنا، مستقل بنیادوں پر استوار کرنا۔ ـــ کو نمٹانا، کا فیصلہ کرنا، کو مقرر کرنا، کو ٹھہرانا، کا جدول بنانا، کا گوشوارہ تیار کرنا، کو ٹھیک کرنا، کو دعوے سے کہنا، کو مستحکم کرنا، کی توثیق کرنا، کو بیان کرنا، کہنا۔ ـــ عن: کی خبر مرتب کرنا، بیان دینا۔ ـــ ہ علی / ب: سے کا اعتراف کرنا یا کو تسلیم کرنے پر مجبور کرنا۔ اَقَرَّہٗ فی: کو میں یا کسی جگہ آباد کرنا، ٹھہرانا۔ ـــ کو میں قائم کرنا۔ ـــ ہ فی: کی حفاظت کرنا۔ کے حفاظتی اقدامات کرنا۔ ـــ ہ فی: کو میں بٹھانا۔ ـــ ہ کو قائم کرنا، کی بنیاد رکھنا۔ ـــ ہ فی: کو میں مسند نشین کرنا۔ ـــ ہ کو وثوق سے کہنا۔ ـــ ہ / ب: پر رضامندی ظاہر کرنا، سے متفق ہونا، کو ماننا، قبول کرنا۔ ـــ ب: کا اعتراف کرنا، کو قبول کرنا، مان لینا۔ ـــ ل ہ / ب: کو کچھ دینا، کو مراعات دینا۔ اَقَرَّ عینَہٗ: کو خوش کرنا، مسرور کرنا، کی آنکھ ٹھنڈی کرنا۔ تَقَرَّرَ: مقرر ہونا، طے پانا، کا فیصلہ ہونا، ٹھیک ہونا، باقاعدہ بنایا جانا۔ قرار پانا، (صورت حال کا) حل ہو جانا۔ اِسْتَقَرَّ ب / فی: میں آباد ہونا، رہائش پذیر ہونا، میں آرام کرنے کے لئے آنا۔ ـــ ب / فی / الی: کے ساتھ کسی جگہ آرام کرنا، مقیم ہونا، رہنا، ٹھہرنا۔ ـــ فی: میں مضبوطی سے جم جانا، پھنس جانا، پیوست ہو جانا۔ ـــ مضبوط

ہونا، ٹھوس ہونا، پائیدار ہونا، مستقل ہونا، مستحکم ہونا (صورت حال، حالات کا) مستحکم ہونا۔ علی: انجام کار کسی حالت کو پہنچنا یا اسے حاصل کر لینا، آخر کار کسی جگہ میں ایک مضبوط مقام پالینا، بالآخر کچھ ہو جانا۔ ـــ: قائم ہونا، ساکن یا غیر تغیر پذیر ہونا۔ استقر خاطِرُہٗ علی: اس کا ذہن پر مرکوز ہو گیا۔ استقر الرایُ علی: کا فیصلہ ہونا، پر یا بدیں معنی و مفہوم ایک قرارداد منظور ہوئی۔ استقر رایہ علی: کا ارادہ کرنا، فیصلہ کرنا، کے لئے، پر یا کچھ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ استقرلہ الامور: اس کی صورت حال مستحکم ہو گئی تھی لایستقرلہ قرار: بے چین ہونا، پس و پیش کرنا، متذبذب ہونا، لم نستقر بعدُ علی حال: ہم ابھی تک کسی پائیدار حال تک نہیں پہنچے، ہمیں ابھی تک کسی حتمی پوزیشن تک رسائی نہیں ہوئی۔ استقر امرہ علی: وہ آخر کار ہو گیا، استقر فی نفسہ: کے لئے شک و شبہ سے باہر ہونا۔ استقربہ المقامُ (یا المکانُ): مستقل طور پر آباد ہونا، بیٹھ جانا، اپنی نشست سے حرکت نہ کرنا۔ استقربہ المجلسُ: بیٹھ جانا، نشست پر بیٹھ جانا، ایک نشست لینا۔ استقربہ الحال: مضبوطی سے قائم ہونا، آباد ہونا، محفوظ صورت میں ہونا۔ قَرّ: ٹھنڈا، سرد، قُرّ: ٹھنڈ، سردی قِرَّۃ: ٹھنڈ، سردی قُرَّۃ العین: آنکھ کے لئے تسلی، ڈھارس، سامان راحت، خوشی، مسرت، محبوب قَرار: آرام سے بیٹھ جانا، آباد ہونا، سکون، غیر تغیر پذیری، جڑا ہوا ہونا، جما ہوا ہونا، مضبوطی، مستقل مزاجی، استحکام، استقلال، ثابت قدمی، تسلسل، پائیداری، غیر تغیر پذیری، آرام، ساکن ہونا، دوران، مدت، مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، گھر، مکان، رہائش، سکونت، قیام گاہ، جائے آرام، (کسی برتن کا) پینیدا، تہہ، (سمندر کی) گہرائی جمع قرارات: فیصلہ، قرارداد، تحریک۔ لاقرارَ لَہٗ: بے ثبات، متلون، ناپائیدار، قابل تغیر، پینیدے کے بغیر، اتھاہ، بے پایاں، لامحدود دارُالقرار: آخرت، آئندہ زندگی، عالم آخرت قرار الموجۃ: دو موجوں کے درمیان کھوکھلی جگہ، قرارات التعدیل: ترمیمی قواعد۔ قرارۃ: پینیدا، تہہ، نشیبی زمین، نشیب، گڑھا، گہرائی۔ فی قرارۃ النفس: دل کی گہرائی میں۔ قریرُ العین: خوش، مسرور، خوش و خرم، تسکین دادہ، قارورۃ جمع قواریر: لمبی گردن والی بوتل۔ مَقَرّ جمع مَقارّ: مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، رہائش، سکونت، قیام گاہ، گھر، مکان، گودام، نشست، مرکز، جگہ، مقام (سمندر میں) حالت مقر العَمَل: کام کرنے کی جگہ مقر القیادۃ: ہیڈکوارٹرز مقر الوطنیۃ: سرکاری مرکز تقریر المصیر: حق خود اختیاری حق الشعوب فی تقریر مصیرھا: اقوام کا حق خود اختیاری، تقریر الحالۃ الجویۃ: موسمی رپورٹ تقریرُ الشُرطۃ: پولیس رپورٹ۔ الاداءات (غیر) القارّۃ: بلاواسطہ یا بالواسطہ ٹیکس (جمع) لجنۃٌ قارّۃٌ: مستقل کمیٹی، قارَّۃ جمع قارّات: براعظم، خشکی کا بڑا ٹکڑا۔ مُقَرِّر: رپورٹر۔ مُقَرّر: قائم شدہ، فیصلہ شدہ، مقرر کیا ہوا جمع مُقَرَّرات: نصاب (سکول کالج وغیرہ کا) فیصلے مُقَرَّر المیزانیۃ: مجوزہ بجٹ حقیقۃ مقررۃ: مکمل حقیقت۔ اموالٌ مُقَرَّرۃ: بلاواسطہ ٹیکس (جمع) مُستَقَرّ: مسکن، رہائش گاہ، قیام گاہ، نشست گاہ، آرام کرنے کی جگہ، سکونت، صدر مقام، مرکز، نشست۔

قرا: ۱۔ قَرَأَ ـــ قَرْءًا وقِرَاءَۃً و قُرْآنًا و اِقْتَرَءَ الکتابَ: کو پڑھنا، کا مطالعہ کرنا۔ ـــ قِرَاءَۃً علیہ السلامَ: کو سلام پہنچانا اور امر کی صورت میں اِقْرَأْ عَلَیْہِ السَّلَامَ: کہا جاتا ہے اس کا تعدیہ بنفسہ غلط ہے اس لئے اِقْرَأْہُ السَّلَامَ: نہیں کہنا چاہئے۔ قارَأَ قِرَاءً و مُقَارَءَۃً ہٗ: کا شریک درس و قرأت ہونا۔ اَقْرَأَ اِقْرَاءً الرجلُ: کو پڑھانا۔ ـــ ہُ السلامَ: کو سلام پہنچانا۔ تَقَرَّءَ: فقیہ ہونا۔ اِسْتَقْرَءَ اِسْتِقْرَاءً فلانًا: کو پڑھنے کے لئے کہنا۔ ـــ الامورَ: معرفت احوال کے لئے کا تتبع کرنا۔ القِرَاءَۃُ: (مص) ج قِرَاءَاتٌ: پڑھنے کی کیفیت۔ الاَقْرَءُ: عمدہ طریقہ سے پڑھنے والا، زیادہ پڑھنے والا، کہا جاتا ہے۔ اَقْرَءُکُمْ فُلَانٌ: تم میں سے فلاں سب سے زیادہ پڑھتا ہے۔ القَرَّاءُ ج قَرَّاءُوْنَ: اچھا پڑھنے والا۔ الاِسْتِقْرَاءُ: تتبع کرنا۔ ـــ عند المنطقیین: کلی کے اکثر افراد میں کوئی چیز مستقل ہونے کے ذریعے کل کے لئے حکم ثابت کرنا جیسے آپ کہیں کل حیوان یحرك فکہ الاسفل عند الاکل لان الانسان و البھائم و السباع کذالك الخ: کہ ہر حیوان کھاتے وقت نیچے والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے اس طرح انسان، چوپائے اور درندے سب ایسا ہی کرتے ہیں لہٰذا ہم نے حکم ثابت کر دیا کہ تمام جانور کھاتے وقت نیچے والے جبڑے کو حرکت دیتے ہیں المِقْرَءُ: پڑھنے کے وقت جس پر کتاب رکھی جائے جیسے ڈیسك: رحل وغیرہ۔ المَقْرُوُّ والمَقْرِیُّ والمَقْرُوْءُ: جو چیز پڑھی جائے۔

۲۔ قَرَأَ ـــ قَرْءًا و قُرْآنًا الشیئَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ ـــ ت الناقۃُ: اونٹنی کا حاملہ ہونا۔ ـــ ت الحاملُ: حاملہ کا جننا۔ اَقْرَءَ اِقْرَاءً الامرُ: قریب ہونا۔ من السفر: سفر سے واپس ہونا۔ القُرْآنَ (مص): کتاب اللہ قرآن مجید۔

۳۔ اَقْرَءَ اِقْرَاءً عنہ: سے پھرنا۔ ـــ النجمُ: ستارہ کا غروب ہونا۔

۴۔ اَقْرَءَ اِقْرَاءً الحاجۃَ: ضرورت کو موخر کرنا۔ ـــ زیدٌ: زید کا پیچھے ہٹنا۔ ـــ ت الحاجۃ: حاجت کا موخر ہونا۔

۵۔ اَقْرَءَ اِقْرَاءً۔ ـــ ت الریاحُ: ہوا کا وقت پر چلنا، القُرْءُ ج اَقْرَاءٌ وقُرُوْءٌ واَقْرُءٌ: وقت۔

۶۔ اَقْرَءَ اِقْرَاءً الرجلُ: عبادت کرنا۔ تَقَرَّءَ: عبادت کرنا۔ القَارِیُٔ ج قُرَّاءٌ وقَارِءُوْنَ قَرَأَۃٌ: عبادت گزار۔ القُرَّاءُ ج قُرَّاءُوْنَ و قَرَارِیُٔ: عبادت گزار۔ المُتَقَرِّیُٔ: عبادت گزار۔

۷۔ القَرْءُ ج اَقْرَاءٌ و قُرُوْءٌ واَقْرُءٌ: قافیہ۔ اَقْرَاءَ الشِعْرِ: شعر کی اقسام اور بحریں اور شعر کے مقاصد۔ القِرَاءَۃ: وبا۔

○ قَرَأَ ـ قِرَاءَۃً (ہ): کو خصوصاً قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا، کی تلاوت کرنا۔ ـــ علی ہ: کو کچھ سنانا۔ ـــ ہ: کچھ پڑھنا۔ ـــ علی / ل ہ: کو پڑھ کر بتانا۔ ـــ علی ہ: سے کچھ پڑھنا، کے تحت مطالعہ کرنا، قرأ علیہ السلامَ: کو سلام کرنا، کا خیر مقدم کرنا۔ قَرَّأَ حسابہ ل: سے حساب چکانا، کو حساب میں رکھنا۔ قَرَأَلَہٗ الف حِساب: کے بارے میں ہزاروں اندیشے رکھنا۔ اَقْرَأَہٗ ہ: سے کچھ پڑھوانا، کو کچھ پڑھ کر سنانے کا فن سکھانا، کو کچھ پڑھنا سکھانا۔ اَقْرَأَہُ السلامَ: کو سلام پیش کرنا۔ اِسْتَقْرَأَہ: کو تلاوت یا پڑھنے کے لئے کہنا۔ ـــ ہ: کی تحقیقات کرنا، کی جانچ کرنا، کا جائزہ لینا، کا گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا، قُرْء جمع قُرُوء: ماہواری، حیض، ماہواری ہونا، حیض آنا۔ قِراءَۃ جمع قراءات: (خصوصاً قرآن کی) تلاوت۔ پڑھنا، قرآن کے متن کی تلاوت کا اسلوب، رموز اوقاف کا استعمال۔ قِرَاءَۃُ الکَفّ: دست شناسی، القرآن: قرآن مجید قُرآنی: قرآن کا، قرآن کے متعلق۔ اِسْتِقراء جمع اِستقراءات: تفتیش، بغور مشاہدہ، گہرا مطالعہ، غور و خوض، قارِیُٔ جمع قارِئون، قُرَّاء: (قرآن) تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا۔ قارِیُٔ الکف: دست شناس۔ مَقْرُوْء: پڑھا ہوا، صاف جو پڑھا جا سکے، پڑھنے کے لائق یا مستحق، دلچسپ (کتاب وغیرہ) مُقْرِی: قرآن کا قاری، قرآن تلاوت کرنے والا۔

○ قُرَّاج جمع قَراجات: (سعودی عرب کی بیچے کے

مطابق)، گیراج، موٹر خانہ۔

قرب: ۱۔ قَرَبَ ـُ قَرْبًا السیفَ: تلوار کو میان میں داخل کرنا، تلوار کی میان بنانا صفت قَارِبٌ والسیف مَقْرُوبٌ۔ اَقْرَبَ اِقْرَابًا: میان بنانا۔ القِرَابُ ج قُرُبٌ و اَقْرِبَةٌ: میان۔ القِرْبَةُ ج قِرَبٌ و قِرْبَاتٌ و قِرِبَاتٌ و قِرَابَاتٌ: مشک یعنی پانی یا دودھ ڈالنے والا برتن اور مثل ہے۔ لَقِیْتُ مِنْهُ عَرَقَ القِرْبَةِ: یعنی مجھے اس سے بہت تکلیف ہوئی۔

۲۔ قَرِبَ ـَ وقَرُبَ ـُ قُرْبًا و قُرْبَانًا و قِرْبَانًا: قریب ہونا۔ ــــ منه والیه: کے قریب ہونا۔ قَرَّبَ ہٗ: کو قریب کرنا۔ ــــ ہُ الامیرُ: کو اپنے خاص لوگوں میں بنالینا۔ ــــ القُرْبَانَ لِلّٰهِ: اللہ کے لئے قربانی کرنا۔ ــــ الکاهنُ فلانًا: کو عشائے ربانی دینا۔ (نصرانیہ) ــــ فلانًا: کو حَیَّاكَ اللّٰه و قَرَّبَ دارك کہنا۔ قَارَبَ مُقَارَبَةً ہٗ: کے قریب ہونا، سے خوش کلامی کرنا۔ ــــ فی الامرِ: میں غلو کو چھوڑ دینا اور میانہ روی اور سچائی اختیار کرنا۔ اَقْرَبَ الاناءَ: برتن کو بھرنے کے قریب کرنا۔ ــــ ت الحاملُ: حاملہ کا جننے کے قریب ہونا۔ تَقَرَّبَ تَقَرُّبًا و تِقِرَّابًا: عشائے ربانی لینا۔ ــــ الی اللّٰه بالقربان: سے اللہ کے پاس قربت ڈھونڈنا، کہا جاتا ہے۔ تَقَرَّبْ یَا رَجُلُ: یعنی جلد کرو بقول بعض کے نزدیک یہ لفظ امر کے ساتھ خاص ہے۔ تَقَارَبَا: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ ــــ ہٗ: کے قریب ہونا۔ ــــ الـزرعُ: کھیتی کا پکنے کے قریب ہونا۔ اِقْتَرَبَ الوعدُ: قریب ہونا۔ الشیئان: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ اِسْتَقْرَبَ الشیئَ: کو قریب سمجھنا۔ القُرْبُ و القَرَابُ: نزدیکی۔ القَرَبُ ج اَقْرَابٌ: کنواں جس کا پانی قریب ہو۔ القُرَابُ: نزدیک۔ ــــ قُرَابُ الشیئِ و قِرَابُهٗ: اندازے میں برابر۔ القُرْبَةُ: جگہ اور مرتبہ کی نزدیکی۔ ــــ ج قُرَبٌ و قُرُبَاتٌ: نیک افعال اور اطاعت جن سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو۔ القُرَبَةُ: نزدیکی، رشتہ داری، کہا جاتا ہے: فی الناء قُرْبَةٌ: برتن بھرنے کے قریب ہے۔ ــــ ج قُرَب و قُرُبات: نیک افعال و اطاعت جن سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو۔ القَرَابَةُ: قریب، نزدیک، کہا جاتا ہے: مَا هُوَ بِشَبِیْهِكَ وَلَا بِقَرَابَةٍ مِنْكَ: نہ تو وہ تمہارے مشابہ ہے اور نہ تم سے قریب ہے۔ القُرْبٰی والقَرَابَةُ: رشتہ داری۔ کی نزدیکی القُرْبَانُ ج قَرَابِیْنُ: ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقریب حاصل کیا جائے خواہ وہ ذبیحہ ہو یا کچھ اور ہو، بادشاہ کا خاص ہم نشین۔ القَرْبَانُ مونث قَرْبٰی ج قِرَابٌ من الآنیة: برتن جو بھرنے کے قریب ہو، بادشاہ کا خاص ہمنشیں۔ القَارِبُ ج قَوَارِبُ: چھوٹی کشتی۔ القَرِیْبُ ج اَقْرِبَاءُ و قُرَابٰی مونث قَرِیْبَةٌ ج قَرَائِبُ: نزدیک (واحد اور جمع کے لئے) (کہا جاتا ہے هو قریب وهم قریب) رشتہ دار، اشعار کی ایک بحر کا نام ہے جو عجمیوں کے استعمال میں ہے جس کا وزن مفاعیلن، مفاعلین فاعلاتن دو مرتبہ ہے، کہا جاتا ہے جَاءُوْا قُرَابٰی: وہ سب قریب قریب آئے اور یہ قریب کی جمع خلاف قیاس ہے۔ الاَقْرَبُ: اسم تفضیل قرب سے۔ اَقْرِبَاءُ الـرَّجُلِ و اَقَارِبُهٗ و اَقْرَبُوْهُ: قریبی رشتہ دار۔ المُقْرِبُ (فا) من الحوامل ج مَقَارِبُ و مَقَارِیْبُ: حاملہ جس کے جننے کا زمانہ قریب ہو۔ المُقْرَبُ (مفع) مونث مُقْرَبَةٌ من الخیل: عمدہ گھوڑا جس کی خوبی کی وجہ سے اس کے چارے اور باندھنے کی جگہ قریب بنائی جائے۔ المَقْرَبُ: مختصر راستہ۔ المَقْرِبَةُ والمَقْرُبَةُ: قرابت، مختصر راستہ المَقْرِبة: قرابت۔ المُقَارِبُ (فا): جید اور ردی کا درمیانہ، درمیانی حالت والا۔ ــــ المُحنی (ہ): جومیٹری کی ایک اصطلاح المُقَارَب (مفع) من المتاع: سستا سامان۔ المُتَقَارِبُ (فا): ایک بحر کا نام ہے جس کا وزن فعولن آٹھ مرتبہ ہے۔

۳۔ قَرِبَهٗ ـَ قَرَبًا: کوکھ کے درد والا ہونا۔ قَرِبَ الرجُلُ: کوکھ کے درد والا ہونا۔ تَقَرَّبَ تَقَرُّبًا و تِقِرَّابًا الرجُلُ: کوکھ پر ہاتھ رکھنا۔ القُرْبُ والقُرُبُ ج اَقْرَابٌ (ع ا): کوکھ۔

۴۔ قَرَّبَ الفرسُ: دلکی چلنا یعنی عام چال سے تیز اور دوڑ سے کم رفتار۔ التَقْرِیْبُ (مص): دوڑ کی ایک قسم کا نام۔

۵۔ اَقْرَبَ الراعی الابلَ: گھاٹ پر پہنچنے کے لئے اونٹوں کو رات کو لے کر چلنا، راعی کو قَارِبٌ کہتے ہیں مُقْرِبٌ نہیں اور اونٹوں کو قَوَارِبُ: کہتے ہیں مُقْرَبَةٌ نہیں۔ القَرَبُ و القِرَابَةُ: گھاٹ پر پہنچنے کے لئے رات میں چلنا۔ القَارِبُ: رات کو پانی ڈھونڈنے والا۔ المَقْرَبُ: رات میں چلنا۔

۶۔ القَرَنْبٰی (ح): لمبی ٹانگوں والا کیڑا جو گبریلا کے مشابہ ہوتا ہے۔ المُتَقَارِبُ: چھوٹے قد کا مرد۔

۷۔ القَرَبُوْسُ ج قَرَابِیْسُ: زین کا آگے پیچھے بلند حصہ۔ یوں یہ دونوں حصے قربوسان کہلاتے ہیں۔

○ مایقرب من: تقریباً، کے قریب، لگ بھگ، کچھ، کوئی، قَرَّبَ من / اِلی ہ: کسی کے کچھ ذہن نشین کرنا۔ ــــ ہ من: کسی کو اپنا ساتھی، ساجھی، شریک کار یا ہم صحبت بنانا۔ ــــ ہ کو مزید پوری طرح منکشف کرنا، (تصور) کو واضح کرنا، کا سمجھنا آسان کرنا۔ ــــ ل ہ: اللہ کے لئے قربانی پیش کرنا۔ ــــ ہ: کو عشائے ربانی دینا (عیسائیت میں) قَرَّبَ بینهم: لوگوں کو آپس میں مزید قریب لانا، لوگوں میں مصالحت کرانا۔ قُــرُب: نزدیکی، قرابت، قرب، گرد و نواح، قرب و جوار، نواح، قُرُبَ: کے گرد و نواح میں، کے قریب، کے نزدیک۔ قُرُبَ الظُهر: دوپہر کے قریب بالقرب من یا بِقُرب: کے قرب و جوار میں، کے نزدیک، کے آس پاس۔ عن قُرب: تھوڑے فاصلے سے، نزدیک سے۔ قُرْبَی: رشتہ، رشتہ داری۔ ذو القُربَی جمع ذوو القُربَی: رشتہ دار، قریب من / اِلی: کے قرب و جوار میں، کے نزدیک، قریب، سے متصل، ملحق، ملا ہوا۔ ــــ: سادہ، آسانی سے، سمجھ میں آنے والا جمع اَقرباء: رشتہ دار۔ قریباً: جلد، جلدی، تھوڑی ہی دیر بعد، مستقبل قریب میں، حال ہی میں، ابھی کچھ عرصہ قبل، ابھی اگلے ہی روز، من قریب یا عما قریب: جلد، جلدی، تھوڑی ہی دیر بعد، مستقبل قریب میں۔ لا ــــ من قریب او بعید: کم از کم نہیں، فی القریب العاجل: قریب ترین مستقبل میں۔ قَریب من الحَسَن: کافی، کافی اچھا (سکول کی رپورٹ کے مطابق) قـریـبُ العهد: نیا، حال کا، حالیہ، جوان، نوجوان۔ من عهدٍ قریب: حال کا، حالیہ تاریخ کا، حال ہی میں، کچھ عرصہ قبل، اگلے ہی روز۔ قـریـبُ العهد ب: حال ہی میں کچھ اکتساب یا اختیار کیا ہوا، سے کچھ عرصہ قبل ہی واقف، شناسا، آشنا یا آگاہ ہونے والا، میں ناتجربہ کار، اناڑی، نو آموز۔ قریب التناول: سمجھنے میں آسان۔ قِرَاب جمع قُرُب و اَقْرِبَة: (تلوار کی) نیام، میان، ظرف، کوئی شے رکھنے کے لئے ڈبہ، بوتل وغیرہ، چیز دان، کیس، پوش، پوشش۔ قَــرابَة: رشتہ، رشتہ داری۔ قُرابَةَ ثلاثة اعوام: تقریباً تین سال، قُــربـان جمع قَـرابین: قربانی، نذر، نذرانہ، عشائے ربانی کی رسم، نماز یا دعا، روٹی اور شراب پر مشتمل متبرک ا%۱ Euchzist۔ قربانُ الشکر: نذرانہ شکر۔

تناول القربان: عشائے ربانی وصول کرنا، قَدَّم القربانَ عن یا رفع القربان علی: کسی کے لئے عشائے ربانی کی دعا پڑھنا۔ قُربانة: عشائے ربانی کے موقع پر مائدہ مقدسہ (پاکیزہ روٹی)، عشائے ربانی اقرب اِلی الفهم: سمجھنے میں زیادہ آسان، زیادہ قابل فہم۔

هو اقرب الى الصحة (يا الصواب) يہ بالكل اغلب ہے۔ يہ كافی صحيح ہے۔ يہ كسی حد تك درست ہے، يہ صحت يا صداقت كے كافی قريب ہے۔ فی أقربِ وقت ممكن جتنی جلدی ممكن ہوا۔ بأقرب ما يمكن: كم سے كم ممكن وقت ميں۔ مَقرَب جمع مَقارِب: قريب ترين يا مختصر ترين راستہ۔ على مَقرُبة: قريب ہی۔ على مقربة من: كے گرد و نواح ميں، كے قريب تقريباً بوجه التقريب، بالتقريب يا على التقريب: تقريباً لگ بھگ، قريب قريب، محسوس تقريباً: بالكل قابل ادراك، تقريبی: متصل، قريب، تقريباً۔ مُقرَّب قريبی ساتھی، منظور نظر، زير حمايت شخص، گہرا دوست، جگری دوست۔ مُتقارِب باہم قريب، لگا تار، متواتر، مسلسل، پے در پے، بعد كا، اگلا۔ مُقارِب اندازہ كيا ہوا، اوسط درجے كا، درميانی قسم كا۔ قارِب جمع قوارِب: كشتی، ہلكی كشتی، قاربُ الزُبدة چھوٹی كشتی، (ترے) جس ميں پگھلا ہوا مكھن ركھا جاتا ہے۔ قارِب مُسلَّح: گن بوٹ (Gun- boat) قارب النجاة: بچاؤ كشتی۔ قارب التنقيب عن الالغام: بارودی سرنگيں ہٹانے يا صاف كرنے والی كشتی۔ قارِبٌ ناری: موٹر بوٹ۔ قَوارِبی: كشتی والا، كشتی بان، مانجھی۔ قَربينة جمع قربينات قرابين (چھوٹی رائفل جو گھڑ سوار استعمال كرتے ہيں)۔

قرت ا۔ قَرَتَ ـِ قَرْتًا و قُرُوتًا الدمُ: تہہ بہ تہہ خون خشك ہونا، زخم ميں خون كا خراب ہو جانا، مار كی وجہ سے بدھی پڑ جانا۔ قَرِتَ ـَ قَرَتًا الدمُ: بمعنی قَرَتَ۔ الظفرُ: خون كا ناخن ميں بگڑ جانا۔ ـــ الرجُلُ: غم يا غصہ كی وجہ سے كے چہرہ كا متغير ہونا۔ القَرْتُ (مص): برف۔ دَمٌ قارِتٌ: كھال اور گوشت كے درميان خشك ہونے والا خون۔

۲۔ قَرَتَ ـُ قُرُوتًا الرجُلُ: خاموش ہونا۔

۳۔ القارِتُ: جو چيز ملے اسے كھانے والا۔ ـــ و القَرّاتُ: عمدہ مشك۔ المقترِتُ: جو چيز ملے اسے كھا جانے والا۔

قرث: قَرَثَ ـُ قَرْثًا هُ الامرُ: پر سخت ہونا۔ قَرِثَ ـَ قَرَثًا الرجُلُ: محنت كرنا اور كمانا۔ القِرِّيثُ (ح): مچھلی كی ايك قسم۔

قرح ا۔ قَرَحَ ـَ قَرْحًا و قَرَّحَ هُ: كو زخمی كرنا۔ قَرِحَ ـَ قَرَحًا: پھوڑوں والا ہونا، كہا جاتا ہے۔ قَرِحَ قَلبُهُ مِنَ الحُزن: اس كا دل غم سے زخمی ہو گيا۔ اَقرَحَ هُ اللّٰهُ: كے جسم ميں پھوڑے نكالنا۔ تَقَرَّحَ الجسدُ: پھوڑے والا ہونا۔ القَرْحُ (مص) ج قُرُوحٌ: زخم، پھوڑا، سخت كھجلی جو اونٹ كے بچوں كو ہلاك كر دے۔ القَرَحُ (مص): اونٹ كو خارش اور انسان كو چيچك ہونے كی حالت۔ القَرِحُ: پھوڑوں والا۔ القُرحَةُ و القَرحَةُ: پرانا پھوڑا جس ميں پيپ جمع ہو۔ القُرحان من الناس: وہ شخص جس كو چيچك ہو (واحد اور جمع كے لئے) الاَقرَحُ: اسم تفضيل۔ القَرِيحُ ج قَرحی و قَراحی: زخمی۔ المَقرُوحُ و المُقَرَّحُ: پھوڑوں والا۔

۲۔ قَرَحَ ـَ قَرْحًا و قَرَّحَ البئرَ: جہاں كھدائی نہ ہوئی ہو كنواں كھودنا۔ اِقتَرَحَ البئرَ: جہاں كھدائی نہ ہوئی ہو يا جہاں پانی نہ ہو كنواں كھودنا۔ ـــ الامرَ: كو بغير كسی نمونہ كے ايجاد كرنا۔ ـــ الشيئَ: بغير سننے كے اپنی طرف سے استنباط كرنا، چننا، اختيار كرنا۔ البعيرَ: جس اونٹ پر كوئی سوار نہ ہوا ہو سوار ہونا۔ ـ الخطبةَ: فی البديہہ خطبہ دينا ـــ عليه كذا او بكذا: سے تحكم كے ساتھ اور بغير سمجھے بوجھے سوال كرنا اِقتَرَحَ عليه كذا: سے كچھ بنوانے كی خواہش كرنا كہا جاتا ہے۔ اِقتَرَحَ عَلَيهِ صَوتَ كَذَا: اس نے اس سے فلاں آواز گانے كی خواہش كی۔ القُرحُ ہر چيز كا اول، نئے كنويں كا پہلا پانی، مہينے كی ابتدائی تين راتيں۔ قُرحَةُ الشتاء او الربيع: سردی يا بہار كی ابتدا۔ القَرِيحُ پہلا بادل جو ظاہر ہو۔ القريحة ح قَرائِحُ ہر چيز كی ابتدا، كنويں كا پہلا پانی۔ ـ من الانسان طبيعت۔ قَرِيحَةُ الشاعِرِ اوِ الكاتِبِ: ملكہ راسخہ كہا جاتا ہے لفلان قريحة جيدة و هو حسن القريحة يعنی فلاں كی طبيعت شعر و شاعری كی طرف ميلان ركھتی ہے اور وہ اچھا شوق ركھتا ہے۔

۳۔ قَرَحَ ـَ قُرُوحًا و قِراحًا الفرسُ گھوڑے كا پانچ سال كا ہونا۔ ـــ ت الناقةُ: اونٹنی كا حمل ظاہر ہونا صفت قارِحٌ ـ قَرِحَ ـَ قَرَحًا الفرسُ گھوڑے كا پانچ سال كا ہو جانا۔ ـ ت سِنُّ الصبی لڑكے كے دانت نكلنے كے قريب ہونا۔ قَرَّحَ النباتُ: كونپل نكالنا ـــ ت الارضُ: زمين كا سبزہ نكلنا شروع ہونا۔ اَقرَحَ الفرسُ: گھوڑے كا پانچ سالہ ہونا۔ القارِحُ (فا): كمان جو تانت سے دور ہو۔ ـــ من ذی الحافر ج قَوارِحُ و قُرَّحُ و مَقارِيحُ مونث قارِحٌ و قارِحَةٌ ج قارِحاتٌ و قَوارِحُ: جس كے پورے دانت نكل آئے ہوں قارِحُ الفرسِ: وہ دانت جس كے نكلنے كے بعد اس كو قارح كہا جاتا ہے۔ القُرحَةُ فی وجه الفرس: گھوڑے كی پيشانی پر سفيدی، كہا جاتا ہے۔ هُوَ قُرحَةُ اصحابه: وہ اپنے ساتھيوں ميں ممتاز ہے۔ الاَقرَحُ: صبح۔ فَرَسٌ اَقرَحُ: وہ گھوڑا جس كی پيشانی ميں درہم كے برابر يا اس كے كم سفيدی ہو مونث قَرحاءُ ج قُرحٌ رَوضَةٌ قَرحاءُ: سبزہ زار، سفيد پھولوں والا باغ۔ قَرِيحُ السحابة: بارش بوقت نزول۔ المَقرُوحُ (مفع) من الطُرُق: واضح راستہ۔

۴۔ قَرَحَ ـَ قَرحًا هُ بالحق: كے ساتھ حق سے پيش آنا۔ قارَحَ مُقارَحَةً هُ: كے روبرو ہونا۔ تَقَرَّحَ للامر: كے لئے تياری كرنا۔ المُقارَحَةُ (مص): كہا جاتا ہے لقيته مُقارَحَةً يعنی ميں اس سے براہ راست ملا۔

۵۔ القَراحُ ج اَقرِحَةٌ: خالص پانی، بے آب و گياہ زمين۔ القُرحانُ: جو كبھی جنگ ميں شريك نہ ہوا ہو۔ ـــ من الابل: اونٹ جس كو كبھی خارش نہ ہوئی ہو، كہا جاتا ہے انت قُرحان من الامر تم معاملہ سے عليحدہ ہو۔ القُراحِیُّ: جو ہميشہ بستی ميں ہے اور جنگل كی طرف نہ جائے، جو كبھی جنگ ميں شريك نہ ہوا ہو، كہا جاتا ہے۔ انت قراحی من الامر تم اس معاملے سے عليحدہ ہو، صفت مونث۔ قُراحِيَّةٌ: القُراحِيتان دونوں كوكھ۔ القارِحُ (ح): شير۔ القَرِيحُ: خالص پانی وغيرہ۔

○ اِقتَرَحَ هُ: كو ايجاد كرنا، وجود ميں لانا، كا موجد ہونا۔ (تقرير) برجستہ كرنا۔ على ب/ هُ: سے تحكمانہ انداز ميں كسی چيز كا مطالبہ كرنا۔ ـــ على هُ: كو كی تجويز پيش كرنا۔ قَرْحٌ جمع قُرُوح: زخم، ناسور، پھوڑا۔ قَرِح: ناسوروں سے ڈھكا ہوا، پيپ دار، قَرحٌ جمع قِرَح: ناسور، پھوڑا، دنبل، پھنسی۔ قَراح: پاك، صاف، شفاف، نتھرا ہوا، (پانی بالخصوص) قَرِيح: بمعنی بالا۔ قَرِيحَة جمع قَرائِح: طبيعت، مزاج، افتاد طبع، پيدائشی مزاج، افتاد طبع، رغبت، ميلان، رجحان، غير معمولی ذہانت صلاحيت، ملكہ، حاسہ۔ اِقتِراح: ايجاد، جو ہاتھ لگے، بنا دينا، جمع اقتراحات: تجويز، مسئلہ، اشارہ، ايہام، ايجاد، تحريك، قرارداد۔ مُقتَرَح جمع مقترحات: بمعنی بالا۔ مُقَرَّح و مُتَقَرِّح: ناسور زدہ۔

قرد: قَرَدَ ـِ قَردًا المالَ: مال جمع كرنا، كمائی كرنا۔ ـ فی السقاء: مشكيزہ ميں دودھ يا گھی جمع كرنا۔ قَرِدَ ـَ قَرَدًا و تَقَرَّدَ الشَعرُ: بالوں كا گھنگھريالے ہونا، ايك پر ايك جم كر نمدہ جيسا ہو جانا۔ القَرَدُ: واحد قَرَدَة: اون يا كتان كا ردی حصہ۔ بادل كے چھوٹے چھوٹے ٹكڑے۔ القَرِدُ: جھنگھور گھٹا۔

۲۔ قَرِدَ ـَ قَرَدًا الاديمُ: ادھوڑی كا كرم خوردہ ہونا۔ ـ الكحلُ فی العين: سرمہ كا پراگندہ ہونا۔

۳۔ قَرِدَ ـَـ قَرَدًا: درماندگی سے خاموش رہنا۔ زمین سے چمٹنا۔ قَرَّدَ بمعنی قَرِدَ ـــ البعیرَ: اونٹ سے چیچڑی نکالنا۔ ہٗ: کو دھوکہ دینا یہ قَرَّدَ البعیرَ سے ماخوذ ہے کیونکہ جب انسان سرکش اونٹ کو قابو کرتا ہے تو پہلے اس کے بالوں سے چیچڑی نکالتا ہے۔ ـــ الیہ: کا تابعدار ہونا۔ اَقْرَدَ: زمین سے چمٹنا۔ البعیرُ: چیچڑی والا ہونا۔ ایسی نرم چال چلنا جس سے سوار کو حرکت نہ ہو۔ المتحرکُ: ساکن ہونا۔ ـــ الیہ: کا تابعدار ہونا۔ القُرْدُ و القُرادُ واحد مونث قُرْدَۃٌ و قُرادَۃٌ ج قِرْدانٌ (ح): چیچڑی جیسے انسان میں جوئیں ہوتی ہیں کہا جاتا ہے نزعت قُرادَ فلان: یعنی میں نے اس کو فریب دیا۔ القَرَدُ: زبان کا ہکلا پن۔ القَرِدُ من الابل: بہت چیچڑیوں والا اونٹ۔ رَجُلٌ قَرُودٌ: ساکن مرد۔

۴۔ قَرِدَ ـَـ قَرَدًا تْ اسنانُہٗ: چھوٹے ہونا اور مسوڑھے سے ملے ہوئے ہونا۔ رَجُلٌ قَرِدُ الفم: پیدائشی چھوٹے دانتوں والا۔

۵۔ قَرِدَ ـَـ قَرَدًا العِلْکُ: گوند کا بدمزہ ہونا۔

۶۔ القَرْدُ: پستہ قد (ع ا) گردن (معرّب)۔ القِرْدُ ج اَقْرادٌ و اَقْرُدٌ و قُرُودٌ و قِرَدٌ و قِرَدَۃٌ و قِرْدَۃٌ مونث قِرْدَۃٌ ج قِرَدٌ (ح): بندر، لنگور، عوام اسے شیطان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلانٌ کالقِرْد: فلاں تو شیطان جیسا ہے ایسے ہی کسی پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں یاقِرْد۔ القَرَدُ واحد قَرَدَۃٌ: پتی اتاری ہوئی کھجور کی شاخ۔ القُرادُ (ع ا): پستان کا سرا۔ القَرّادُ: بندر والا۔

۷۔ قَرْدَحَ قَرْدَحَۃً: جو چیز مانگی جائے اس کا اقرار کر لینا، فرمانبردار ہونا اور باستعمال عوام ہتھیار بنانا اور ان کو درست کرنا (سریانیہ)۔ اِقْرَنْدَحَ لہٗ: پر الزام لگانا۔ القَرداحِیُّ و القَرْدَحْجِیُّ: ہتھیار بنانے اور درست کرنے والا (پہلا لفظ سریانی اور دوسرا ترکی ہے)۔ القُرْدُحُ و القُرْدُوحُ: بڑا بندر، لنگور۔ القُرْدُحَۃُ و القُرْدُوحَۃُ: نوجوان کے گلے کا ٹینٹوا۔ المُقْرَنْدِحُ: (فا) آمادہ شرارت۔

۸۔ القَرْدَدُ ج قَرادِدُ: سخت اور بلند زمین کہا جاتا ہے۔ جاء بالحدیث علی قردده: اس نے بات کو اپنے موقع پر رکھا۔ القُرْدُودُ ج قَرادِیْدُ: سخت اور بلند زمین (ع ا) انسان کی پیٹھ کا وسط۔ القُرْدُودَۃُ ج قَرادِیْدُ: سخت اور بلند زمین۔ قُرْدُودَۃُ الظھر: پیٹھ کا اعلیٰ حصہ۔ قُرْدُودَۃُ الشِّتاءِ: موسم سرما کی شدت۔ القِرْدِیْدَۃُ ج قَرادِیْدُ: کلام کی سختی۔ (ع ا): پیٹھ کے درمیان کا خط۔ ـــ (ع ا): مرد کا سر، پہاڑ کی چوٹی۔

۹۔ قَرْدَسَ قَرْدَسَۃً ہٗ: کو مضبوط باندھنا۔ ـ جِرْوَ الکلب: کتے کے پلے کو بلانا۔ القَرْدَسَۃُ (مص): سختی، شدت۔ القَرَیْدِسُ (ح): ایک چھوٹی سی مچھلی۔

۱۰۔ القَرْدَعَۃُ: خواری، ذلت۔ القِرْدِعَۃُ (ع ا): گردن کہا جاتا ہے۔ اخذ بِقِرْدِعَتِہ: اس نے اس کی گردن پکڑ لی۔

قرز: ۱۔ قَرَزَ ـُـ قَرْزًا ہٗ: کھرچنا۔ التراب و نحوہٗ: کو انگلیوں سے لینا۔ القَرْزُ (مص): ٹیلہ، سخت زمین۔ القُرْزَۃُ: مٹھی۔

۲۔ قَرْزَمَ الشاعرُ شِعْرَہٗ: ردی شعر کہنا۔ القِرْزامُ: گھٹیا شاعر۔ المُقَرْزَمُ: حقیر، لئیم، فرومایہ۔ رجل مقرزم: گھٹے ہوئے بدن کا پستہ قد مرد۔

◯ قِرد جمع قِرَدَۃ و قُرُود: بندر، بے دم کا بندر، بوزنہ۔ قُرد واحد قُرْدَۃ: چیچڑی قُراد واحد قُرادَۃ جمع قِردان: چیچڑی ابو قِردان: سفید بگلا۔ White Egret مَقْرُود: تھکا ماندہ۔

قرس: ۱۔ قَرِسَ ـَـ قَرَسًا الماءُ: پانی کا منجمد و سرد ہونا۔ ـ البردُ: سخت ٹھنڈک ہونا۔ المَقْرُوْرُ: سخت سردی کی وجہ سے ہاتھ سے کام نہ کر سکنا۔ قَرِسَ ـــ قَرَسًا البردُ: تیز جاڑا ہونا۔ الرجلُ: ٹھٹھرنا۔ قَرَّسَ البردُ فلانًا: کو ٹھٹھرا دینا۔ ـــ الماءَ: کو جما دینا۔ اَقْرَسَ العودُ: لکڑی کی تری کا اس کے اندر جم جانا۔ البردُ اَصابعَہٗ: سردی کا کی انگلیوں کو سن کر دینا۔ اور اس کا اُن سے کام نہ کر سکنا ـــ البردُ فلانًا: سردی کا کسی کے لئے ناقابل برداشت ہونا۔ ـــ الماءَ: کو جما دینا۔ القارِسُ (فا): سخت سرد۔ القَرْسُ: سخت سردی۔ القَرَسُ و القَرِیْسُ: سخت سردی، جما ہوا، کہا جاتا ہے۔ اصبح الماءُ قریسًا: پانی جم گیا۔

۲۔ القَرْقَسُ (ح): چھوٹے مچھر، شیئ قارس و قریس: پرانی چیز۔ القُراسُ و القُراسِیَۃُ من الابل وغیرھا: موٹا مضبوط اونٹ وغیرہ کہا جاتا ہے لھم مُلْکٌ قُراسِیَۃٌ و عِزٌّ قُراسِیَۃٌ: ان کی مضبوط مملکت اور پائیدار عزت ہے۔ القَراسِیا (ن): ایک درخت جس کا پھل کالے انگور کی مانند ہوتا ہے یہ صاد سے بھی لکھا جاتا ہے۔

◯ قرس ـ قَرَسًا: (سردی کا) سخت، شدید، تکلیف دہ یا خوفناک ہونا۔ قَرَّسَ ۱۵ ھ: (سردی کا) کسی شخص یا چیز کو منجمد کرنا، بے حس و حرکت کرنا، سن کرنا، شل کرنا، (پودوں) کو متاثر کرنا۔
قارس: سخت، شدید، تکلیف دہ (سردی)، بہت سرد، سخت سرد، منجمد، منجمد کن۔

قرش: ۱۔ قَرَشَ ـِـ قَرْشًا الشیءَ: ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے یکجا کرنا ـــ لعیالہ: کے لئے کمائی کرنا۔ قَرَّشَ لعیالہ: کے لئے کمائی کرنا۔ ـــ ہٗ: کو قریش کی طرف منسوب کرنا۔ ـــ الدراھمَ: درہم گننا (عامیہ)۔ قارَشَ ہٗ: کو ملانا۔ تَقَرَّشَ المالَ: کو جمع کرنا۔ ـــ لعیالہ: کے لئے کمائی کرنا۔ ـــ الشیءُ: چمٹنا۔ ـــ القومُ: قوم کا جمع ہونا۔ اِقْتَرَشَ لعیالہ: کیلئے کمائی کرنا۔ القَرْشُ ج قُرُوشٌ: ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہوا۔ القِرْش جمع قُرُوش: پیاسٹر، ایک ترکی سکہ۔ قُرَیْشٌ عرب کا ایک مشہور قبیلہ نسبت کے لئے قُرَشِیٌّ یا قُرَیْشِیٌّ۔ المُقَرِّشَۃُ من السنین: سخت قحط کا سال۔

۲۔ قَرَشَ ـــ قَرْشًا الجیشُ بالرماح: نیزہ مارنا۔ تَقَرَّشَ تِ الرماحُ: لڑائی میں نیزوں کا آپس میں گتھنا۔ تَقارَشَ القومُ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا اور اس سے جھنکار پیدا ہونا۔ ـــ تِ الرماحُ: لڑائی میں نیزوں کا آپس میں ٹکرانا گتھنا۔ اِقْتَرَشَ تِ الرماحُ: لڑائی میں نیزوں کا آپس میں گتھنا۔ قَرْشُ الشیءِ: چیز کی آواز۔ رِماحٌ قَوارِشُ: لڑائی میں گتھے ہوئے نیزے۔

۳۔ قَرَشَ ـِـ قَرْشًا ہٗ: کو کاٹنا۔ قَرَّشَ الحلیبُ: دودھ کا چھڈی بن جانا (عامیہ)۔ تَقَرَّشَ عن السیئات: برائیوں سے پرہیز کرنا، بچنا۔ القِرْشُ و القُرَیْشُ (ح): ایک قسم کی مچھلی جس کو کلب البحر بھی کہتے ہیں جو پانی کے اندر جانوروں کو اپنے دانت سے تلوار کی طرح کاٹ دیتی ہے اس سے تمام سمندری جانور ڈرتے ہیں۔ القُرَیْشَۃُ: کھٹا پنیر۔

۴۔ قَرَشَ ـــ قَرْشًا من الطعام: تھوڑا سا کھانا پانا۔ اَقْرَشَتْ ہُ الشَّجَّۃُ: سے کے زخم کا بغیر چورہ کئے ہڈی توڑنا۔ تَقَرَّشَ الشیءَ: کو اول اول لینا۔

۵۔ قَرَشَ بینھم: ایک کو دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرنا، اکسانا، چغلی کھانا۔ قارَشَ: تعرض کرنا (عامیہ)۔ اَقْرَشَ بہٖ: کی چغلی کھانا، کے عیوب ظاہر کرنا۔ اِقْتَرَشَ بہٖ: کی چغلی کھانا، کو نقصان پہنچانے کے لئے کوشش کرنا۔

◯ قِرْش: شارک (مچھلی کی ایک قسم) جمع قُرُوش: ایک سکہ، قرش صاغ 1/100 پاؤنڈ انگریزی کی مالیت کا معیاری سکہ۔ قرش تعریفة: نصف قرش صاغ۔ قُرَیش: مکہ کا ایک عرب قبیلہ قُرَشِی: قریش قبیلہ یا اس کے متعلق، قریشی (شخص) قُرَیشِ و قُرَیْشَة

کھٹی پنیر۔ مُـقَـرِّش: دولتمند، مال دار، امیر، آسودہ حال، مرفہ الحال۔

قرص ۱۔ قَرَصَ ـُـ قَرْصًا لحمَهٗ: کی چٹکی لینا۔ ـــ ہٗ بلسانه: کو تکلیف دہ کلمات کہنا۔ ـــ الثوب بالماء: انگلیوں کے پوروں سے دھونا۔ ـــ ت المرأة الثوبَ عند الغاسلة: صرف میل والی جگہ سے کپڑا دھونا نہ کہ سارا کپڑا دھونا۔ ـــ البرغوثُ: پسو کا کاٹنا۔ ـــ ته الحيَّةُ: کو سانپ کا ڈسنا۔ قرص ـــ قرصًا: ہمیشہ غیبت کرنا اور تکلیف دہ کلمات بولنا۔ قـــارص ہٗ و تقارصا: ایک دوسرے کی چٹکی لینا۔ القارِص (فا) (ح): مچھر کی مانند ایک جانور۔ القارصةُ ج قوارص: القارص کا مونث۔ ـــ كلمةٌ قارصة: تکلیف دہ کلمہ۔ القُرّاصُ واحد قُرّاصَةٌ (ن): ایک روئیں دار گھاس جس کے چھونے سے تکلیف ہوتی ہے یہ خصوصاً گھروں کے آس پاس اور باغات کے اطراف میں اگتی ہے اس پر باریک باریک کانٹے ہوتے ہیں جب انسان اسے چھوتا ہے تو گوشت میں چبھ جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں پھر اس سے ایک سیال مادہ بہتا ہے جس سے ہاتھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس گھاس کو پکا کر لوگ کھاتے بھی ہیں عام لوگ اسے قُرَیص کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اَحْمَرُ قُرّاص: سخت سرخ۔ ـــ لجامٌ قُرّاص و قَرُوص: وہ لگام جو جانور کو تکلیف دے۔ القُرُوصَةُ: زبان کو چھیل دینا۔

۲۔ قَرَصَ ـــ قَرْصًا و قَرَّصَ الشيءَ: کو کاٹنا۔ ـــ العجينَ: گندھے ہوئے آٹے کے پیڑے بنانا۔ القُرْصُ ج اَقْرَاصٌ و قِرَصَةٌ و قِرَاصٌ، و القُرْصَةُ ج قُرَصٌ: روٹی کی ٹکیا۔ ـــ قُرْصُ الشمس: آفتاب کی ٹکیہ کہا جاتا ہے۔ غاب قرصُ الشمس: آفتاب کی ٹکیہ غائب ہوگئی۔ المِقْرَاصُ: ٹیڑھے سر کی چھری۔ المُقَرَّصُ (مفع) من الحلي و غیرها: ٹکیہ کے مانند گول زیور۔

۳۔ القُرّاصُ (ن): بابونہ۔ القُرْصانُ: بحری ڈاکو بعض لوگ اس لفظ کو واحد کہتے ہیں اور اس کی جمع کے لئے قَرَاصِنَہ کا لفظ بولتے ہیں اور اس سے اسم قَرْصَنَة ہے (ایطالیہ)۔ القُرَيْصُ: کشتی کا لنگر۔ القَرَاصيا او القَرَاسِيا (ن): ایک پھل آور پودا ہے لبنان اور مشرق وسطی کے کئی ممالک میں اگایا جاتا ہے اس کا پھل چھوٹا اور سیاہی مائل ہوتا ہے (یونانی لفظ)۔

۴۔ قَرْصَبَ قَرْصَبَةً ہٗ: کو قطع کرنا، کاٹنا۔

۵۔ قَرْصَعَ قَرْصَعَةً: سکڑنا، پوشیدہ ہونا، بخل کی وجہ سے تنہا کھانا ـــ في بيته: میں بیٹھنا اور سمٹنا ـــ زيد في ثیابه: کو اس کے کپڑوں میں لپیٹنا۔ اِقْرَنْصَعَ الرجلُ: کپڑوں میں لپٹنا، سکڑنا اور چھپنا۔

۶۔ قَرْصَعَ قَرْصَعَةً الكتابَ: سطروں کو قریب قریب کرنا اور باریک لکھنا۔

۷۔ تقرصع ت المرأةُ: بری چال چلنا۔

۸۔ القِرْصَعْنَةُ و القِرْصَعَنَّةُ (ن): ایک قسم کی خاردار سبزی جو شوکتہ ابراہیم کے نام سے معروف ہے اس کے پھول گھنے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بعض قسموں کو تزئین و آرائش کے لئے اُگایا جاتا ہے اور اس کی ایک قسم خاردار نہیں اس کے پتے سلاد کے طور پر کھائے جاتے ہیں۔

۹۔ تقرصف و اِقْرَنْصَفَ: جلدی کرنا۔

۱۰۔ قَرْصَمَ ہٗ: کو کاٹنا، توڑنا۔

ﺽ قُرْص جمع اقراص: روٹی کا گول اور چپٹا ٹکڑا، گول چپٹی پلیٹ، ڈسک، ٹکیا، چکر، گراموفون ریکارڈ، چرخی، تلّی، ٹکیہ، گولی، قرص الارقام: (ٹیلیفون کا) ڈائل۔ اقراص عَجْوَة: بادام اور کھجوروں اور گندھے ہوئے آٹے سے بنائی ہوئی پیسٹری۔ قرص عَسَل: شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔ جَلَبَ النارَ لِقُرصه: اپنا گھر بھرنا، اپنا مفاد خوب سمجھنا۔ قُرْصِيُّ الشكل: ٹکیہ کی شکل کا۔ قُرْصَة جمع قُرَص: روٹی کا گول اور چپٹا ٹکڑا۔ قَرْصَة جمع قَرَصات: چٹکی، نوچ کھسوٹ، مچھر پسو وغیرہ کا کاٹنا، ڈنک، نیش، سیلی، گدالا، اڑا، لیور، بیرم۔ قُرَّيص: ڈنک مار پودا۔ قَرَّاصة: موچنا، چٹی قراصیة: چھوٹے سیاہ آلوچے، خشک آلوچے۔ قارِص: ڈنک مار، کاٹنے والا، تکلیف دہ، چبھتی ہوئی (سردی)۔ قوارِصُ الكلمات: کاٹ دار الفاظ۔ قَرْصَنَة: قزاقی، کھلے سمندر میں رہزنی، ڈاکہ، لوٹ، بحری ڈاکہ۔ قُرْصان جمع قراصن و قراصين: بحری ڈاکو، قزاق۔

قرض ۱۔ قَرَضَ ـــ قَرْضًا الشيءَ: کو کاٹنا کہا جاتا ہے۔ قَرَضَ رِباطَهٗ: یعنی مرگیا۔ ـــ الوادي: وادی کو طے کرنا ـــ ہٗ: کو بدلہ دینا ـــ الشعرَ: شعر کہنا۔ ـــ الفارُ الثوبَ: چوہے کا کپڑے کو کترنا۔ قَرِضَ ـَـ قَرَضًا: مرنا۔ قَرَّضَ الشيءَ: کو کاٹنا ـــ فلانًا: کی مدح کرنا، مذمت کرنا ـــ الفارُ الثوبَ: چوہے کا کپڑے کو کترنا۔

قارَضَ قِراضًا و مُقارَضَةً ہٗ: کو بدلہ دینا، کی برائی کا برائی سے مقابلہ کرنا ـــ ہٗ في المال: کے مال سے تجارت کرنا اور نفع میں شریک ہونا۔ اَقْرَضَ ـــ ہٗ: کو قرض دینا، عام لوگ قرضه کہتے ہیں ـــ منه: سے قرض لینا۔ تقارَضَ الرجلان: ایک دوسرے کو برائی یا بھلائی کا بدلہ دینا، کہا جاتا ہے تقارَضَ القرنانِ النظرَ: یعنی ہر ایک نے دوسرے کو کڑی نگاہ سے دیکھا۔ ـ تقارَضا الثناءَ: ہر ایک کا دوسرے کی تعریف کرنا۔ تقارَضا الشعرَ: اپنے اپنے اشعار پڑھنا۔ اِقْتَرَضَ عِرضَهٗ: کی غیبت کرنا۔ منه: سے قرض لینا۔ اِنْقَرَضَ: ختم ہونا۔ ـــ القومُ: سب کا ہلاک ہو جانا، کسی کا باقی نہ رہنا۔ اِسْتَقْرَضَ منه: سے قرض مانگنا۔ القَرْضُ و القِرْضُ ج قُرُوضٌ: اچھا یا برا عمل جو پیش کیا جائے، جو مال تم کسی کو اس شرط پر دو کہ وقت معینہ پر تم کو واپس کردے۔ القُراضَةُ: کاٹنے میں جو گرے جیسے سونے کے ذرات اور کپڑے کی دھجی وغیرہ قُراضَةُ المالِ: ردی مال۔ القَرّاضَةُ: لوگوں کی غیبت کرنے والا، (ح) کیڑا جو اون کو چاٹ جاتا ہے۔ القَرِيضُ: کاٹا ہوا، شعر، جگالی۔ التَقْرِيضُ: شاعری۔ المِقْراضُ ج مَقارِيضُ: قینچی۔ اِبْنُ مِقْرَضٍ: نیولے کے مانند ایک جانور جو اس سے بڑا اور سفید زردی مائل ہوتا ہے اور چوہے، خرگوش اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔

۲۔ قَرَضَ ـــ قَرْضاءً: کے مقابل ہونا۔ المكانَ: سے علیحدہ ہونا۔ ـــ في سيره: چلنے میں دائیں بائیں ہونا

۳۔ المَقارِضُ: تھوڑی کھیتی، بڑے مٹکے شراب کے برتن۔

۴۔ قَرْضَبَ الشيءَ: کو جدا جدا کرنا، کاٹنا۔ ـــ اللحمَ في البُرْمَة: گوشت کو ہانڈی میں جمع کرنا۔ ـــ فلانًا: دوڑنا۔ القِرْضِبُ: بھوسی جو چھلنی میں باقی رہ جائے اور اسے پھینک دیا جائے۔ القِرْضابُ و القُرْضُوبُ ج قَراضِبَةٌ: قاطع تلوار، چور۔

۵۔ قَرْضَبَ الرجلُ: خشک چیز کھانا ـــ اللحمَ: سارا گوشت کھا جانا کہا جاتا ہے: قرضب الذئبُ الشاةَ: بھیڑیا سالم بکری کھا گیا۔ القَراضِب ج قَراضِب: جو کچھ ملے اسے کھا جانے والا۔ القِرْضابُ و القُرْضُوبُ ج قَراضِبَةٌ: خشک چیز کو کھانے والا، فقیر۔

۶۔ قَرْضَمَ الشيءَ: کو کاٹنا، لے کر چل دینا کہا جاتا ہے هو يُقَرْضِمُ كُلَّ شيءٍ: وہ ہر چیز کو لے کر چل دیتا ہے۔ رجُلٌ قُراضِمٌ و قِرْضِمٌ: ہر چیز لے لینے والا۔

ﺽ قَرْض حَسَن: واپسی کی شرط کے بغیر سود سے پاک قرض، قرض مالي: نظام زر سے متعلق قرض۔ اَسْهُم القرض: سرکاری تمسک (Bonds)۔ قَرِيض: شاعری، فن شاعر، شعر گوئی۔ قُراضة جمع قُراضات: ریزے، ٹکڑے، کاشیں، چیتھڑے، تراشیں،

کترنیں، چھیلنیں، لکڑی کی پرتیں، روی، برادہ۔ القَوَارِض: کترنے والے جانور۔ مُقْرِض جمع مقرضون: قرض دینے والا، قرض دہندہ، بیاجو، قرض خواہ اِنقراض بتدریج پوشیدگی، ناپیدگی، نیستی، نابودگی۔

قرط :ا۔ قَـرَطَ ـُ قَرْطًا الكُرَّاثَ ونحوَهُ: کو باریک باریک کاٹنا۔ عوام قرط کو لثغ یعنی ہکلا پن کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فلان یقرط بالراء: یعنی وہ را پڑھتے وقت ہکلاتا ہے۔ قَرَّطَ الشیئ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ـــ السراج: چراغ سے گل گرانا۔ ـــ علی الرجل: کو تھوڑا تھوڑا دینا۔ ـــ علی الشیئ عند العامة: کو مکمل کاٹ دینا۔ القُرطُ: آگ کا شعلہ۔ القِرطُ (ن): گندنا کی ایک قسم۔ القِراطُ: چراغ، چراغ کا شعلہ۔ و القُراطَة: بتی کا گل۔ والقِراطُ: قیراط القِیراط ج قَرَارِیطُ: نصف دانق اور بقول بعض دینار کا ۴/۶ اور بقول بعض دینار کے دسویں حصہ کا آدھا بقول بعض کسی چیز کا چوبیسواں حصہ۔ ـــ فی المساحة انگلی کی چوڑائی کے برابر (یونانیہ) وعند الیونان: دانہ خرنوب نصف دانق اور درہم ان کے ہاں بارہ دانوں کا ہوتا ہے۔ القَرارِیطُ: دانہ تمر ھندی۔ (املی کا دانہ)

۲۔ قَـرِطَ ـَ قَرَطًا التیسُ کٹے ہوئے کانوں والا ہونا صفت اَقْرَطُ۔ قَرَّطَ الجاریة لڑکی کو بالی پہنانا۔ ـــ الفرسَ: گھوڑے کو لگام لگانا۔ تَقَرَّطَتِ المرأةُ: عورت کا بالی پہننا۔ القُرطُ ج اَقْرَاطٌ و قِرَاطٌ و قُرُوطٌ و قِرَطَةٌ: بالی، ایرنگ، ثریا (بناء بر تشبیہ) تھن، ـــ من الموز او البلح کیلے وغیرہ کی پھلیوں کا گچھا انگور کی طرح۔ القَرطَةُ و القِرطَةُ: مینڈھے کے کان کا کٹ کر لٹکتا ہوا حصہ۔

۳۔ قَرَّطَ الیه رسولاً کو جلدی بھیجنا۔

۴۔ القُرطُ (ن): ایک گھاس ہے جو اسپست کے مشابہ ہے۔ القَیرُوطِیُّ: ایک مرہم جو لیپ کی جاتی ہے (یونانیہ)۔

۵۔ قَرطَبَ قَرطَبَةً ہ: کو گدی کے بل پچھاڑنا۔ تَقَرطَبَ علی قفاہ: گدی کے بل گرنا۔

۶۔ قَرطَبَ قَرطَبَةً الجزورَ: کی ہڈیوں کو کاٹنا۔ القُرَاطِبُ: بہت کاٹنے والا۔ القُرطُبِیُّ: تلوار۔

۷۔ قَرطَبَ قَرطَبَةً الرجلُ: غضبناک ہونا، تیز دوڑنا بھاگنا۔

۸۔ قَرطَسَ نشانہ لگانا۔ القِرطَاسُ ج قَرَاطِیسُ: نشانہ۔

۹۔ تَقَرطَسَ الرجلُ ہلاک ہونا۔

۱۰۔ القِرطَسُ و القُرطَسُ و القَرطَاسُ و القُرطَاسُ ج قَرَاطِیسُ: کاغذ۔ القِرطَاسُ ج قَرَاطِیسُ: ایک قسم کی مصری چادر، کاغذ، تحریر جو کچھ بھی ہو، سفید دراز قامت لڑکی، جوان اونٹنی۔

۱۱۔ القِرطِیطُ و القِرطِیطَةُ تھوڑی چیز۔

۱۲۔ القَرطَفُ و القَرطَفَةُ مخملی چادر۔

۱۳۔ قَرطَلَ ہُ فی الماء: کو پانی میں ڈبونا۔ القَرطَلُّ ج قَرَاطِلُ: ٹوکری، کنڈیا، عوام ہر ٹوکری کو قرطل کہتے ہیں۔ القِرطَلَّةُ: گدھے کا ایک جانب کا بوجھ۔ القِرطَالَةُ ج قِرطَالٌ: پالان کے نیچے کا خوگر۔

۱۴۔ قَرطَمَ قَرطَمَةً الشیئَ: کو کاٹنا۔ ـــ الطائرُ: کے لئے قرطم کے دانے ڈالنا۔ القِرطِمُ: اور اسے عُصفُر بھی کہا جاتا ہے (ن) بنگترہ نما ایک پھل دار پودہ۔ القُرطُمُ و القِرطِمُّ و القُرطُمُّ: قرطم یا عصفر کا دانہ۔ القُرطُمَانُ: ایک قسم کا غلہ جو ماش کے مشابہ ہوتا ہے۔ خِفَافٌ مُقَرطَمَةٌ: کناروں پر مضبوط سلے ہوئے چرمی موزے عوام انہیں اصابع مقرطمة: (چھوٹی انگلیاں) کہتے ہیں۔

○ قِرطاس جمع قَراطِیس: کاغذ، کاغذ کا تختہ، تاؤ، کاغذی تھیلا، لفافہ۔ قِرطَس کاغذ، کاغذ کا تختہ، تاؤ۔

○ قُرطُبَة ہسپانیہ کے ایک شہر کا نام Cordova۔

○ قَرطَجَنَّة و قرطاجنه: قرطاجنہ، کارتھیج (شہر)۔

○ قِرطِم و قُرطُم: کسم، زعفران کا ذب، عصفر۔ قُرطُمان: جئی۔

قرظ :ا۔ قَرَظَ ـَ قَرظًا القَرَظَ: درخت سلم (جو کیکر کی مانند ہوتا ہے) کے پتے چننا۔ الادیمَ: کو درخت سلم کے پتوں سے دباغت دینا۔ القَرَظ: واحد قَرَظَةٌ: درخت سلم کے پتے جن کے ساتھ دباغت کی جاتی ہے۔ القَرَّاظُ درخت سلم کی پتوں کو بیچنے والا۔

۲۔ قَرُظَ ـُ قَرَظًا دولت کے بعد سردار ہونا۔

۳۔ قَرَّظَ تَقرِیظًا ہُ: زندہ کی سچی یا جھوٹی مدح کرنا۔ تَقَارَظَ الرجلان ایک دوسرے کی مدح کرنا۔

○ قَرِیظ و تقریظ: کسی زندہ یا مرحوم شخص کے اوصاف اور خدمات کو سراہتے ہوئے اس کا تحریری یا تقریری تذکرہ، مدح، قصیدہ، مدح سرائی، کسی شخص یا شے کی رسمی تعریف، مدحیہ عبارت۔

قرع: قَرَعَ ـَ قَرعًا البابَ: دروازہ کھٹکھٹانا اور اس سے مثل ہے مَن قَرَعَ بَابًا وَلَجَّ وَلَجَ: جو شخص دروازہ کھٹکھٹائے اور اصرار کرے وہ داخل ہوتا ہے۔ ـ الرجلَ: کو مارنا کہا جاتا ہے۔ قَرَعَ رأسَهُ بالعصا: اس نے اس کے سر پر لاٹھی ماری، اور کہا جاتا ہے قَرَعَ صَفاتَهُ: اس نے اس کی منقصت کی اور عیب بیان کیا اور کہا جاتا ہے قرع ساقہ للامر: وہ کام کے لئے فارغ ہوا۔ قَرَعَ ہُ بالحق: کو مناسب طور پر پھینکنا۔ ـــ ہُ امرٌ: کو اچانک پیش آنا۔ ـــ سِنَّہُ: ندامت سے دانت پیسنا۔ قَرِعَ ـ قَرَعًا و قَرْعًا ماءُ البئر: کنویں کے پانی کا ختم ہونا۔ قَرَّعَ فلانًا کو جھڑکی دینا۔ ـ القومَ: کو رنجیدہ کرنا۔ قَارَعَ و تَقَارَعَ القومُ آپس میں قرعہ اندازی کرنا۔ ـــ القومُ بالرماح: آپس میں نیزہ بازی کرنا۔ اقْرَعَ تِ الحمیرُ گدھوں کا ایک دوسرے کو دولتی مارنا۔ ـ العائصُ والمائحُ غوطہ خور کا زمین کی تہہ تک پہنچنا۔ اِستَقرَعَ الحافرُ کھر کا سخت ہونا۔ القَارِعَةُ ج قَوارِعُ: القارع کا مونث، قیامت، مصیبت، ہلاک کرنے والی مصیبت، کہا جاتا ہے۔ قَرَعَتهُم قوارِعُ الدھرِ ان پر زمانہ کی سخت مصیبتیں آئیں، اور کہا جاتا ہے نعوذ باللہ من قوارع فلان: ہم فلاں کی زبان کی تیزی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ قَارِعَةُ الطریق: راستے کا اعلیٰ اور بڑا حصہ۔ القَرعَةُ قرع سے اسم مرہ۔ القَرَعَةُ: ڈھال۔ القَرَّاعُ م قَرَّاعَةٌ: اسم مبالغہ، ڈھال، بہت سخت۔ القَرُوعُ کم پانی والا کنواں۔ القَرِیعُ ج قَرعَی: قرعہ اندازی کرنے والا۔ المِقرَاعُ پتھر توڑنے کی کدال الاَقرَعُ مونث قَرعَاءُ ج قُرعٌ و قُرعَانٌ: عمدہ لوہے کی تلوار، ترس اقرع سخت ڈھال القَرعَاءُ مصیبت، راستہ کا اعلیٰ حصہ۔ المِقرَعَةُ ج مَقَارِعُ: کوڑا، ہر وہ چیز جس سے کھٹکھٹایا جائے۔

۲۔ قَرِعَ ـَ قَرَعًا الشیئَ کو پسند کرنا۔ اَقرَعَ الرجلَ: کو عمدہ مال دینا۔ اِقتَرَعَ الشیئَ: کو اختیار کرنا۔ القُرعَةُ: عمدہ مال۔ القَرِیعُ ج قَرعَی: جوان اونٹ، سردار، کہا جاتا ہے۔ فلان قرِیعُ دَھرِہ فلاں انتخاب زمانہ ہے اور کہا جاتا ہے۔ ھو قریعُ الکتیبة: وہ فوج کا سردار و کمانڈر ہے۔ القَرِیعَةُ: عمدہ مال، گھر میں سب سے عمدہ جگہ۔ القَرِیعُ سردار۔ المَقرُوعُ (مفع) سردار۔

۳۔ قَرَعَ ـَ قَرعًا السهمُ الغایةَ تیر کا نشانہ پر لگنا۔ قَرَعَ ـَ قَرعًا فلانًا قرعہ میں غالب آنا۔ قُرِعَ علیه تیراندازی میں مغلوب ہونا۔ قَرِعَ ـ قَرَعًا و قَرعًا الرجلُ: تیراندازی میں مغلوب ہونا۔ قَارَعَ قِرَاعًا و مُقَارَعَةً ہُ: باہم قرعہ اندازی کرنا ـــ ہُ فَقَرَعَہُ: اس نے اس سے قرعہ اندازی کی اور غالب آیا۔ تَقَارَعَ القومُ قرعہ ڈالنا۔ اَقرَعَ بین القومِ: قرعہ ڈالنا۔ اِقتَرَعَ القومُ علی کذا: پر

قرعہ ڈالنا۔ القَرَعُ: مقابلہ میں سبقت۔ القُرعَةُ: قرعہ اندازی، حصہ۔ اِلقاءُ القُرعَةِ: قرعہ اندازی۔ القَرُوعُ: بکری جس پر قرعہ اندازی کریں۔ القَرِیعُ ج قَرعَی: قرعہ اندازی میں غالب، قرعہ اندازی میں مغلوب۔ القِرِّیعُ: اسم مبالغہ۔

۴۔ قَرِعَ ـَ قَرَعًا و قَرَعًا المکانُ: خالی ہونا۔ قَرَعًا الرجُلُ: گنجا ہونا۔ قَرَّعَ الفصیلَ: اونٹ کے بچے کی پھنسی کا علاج کرنا۔ ـــ الشعرَ: بال کاٹنا۔ تقرَّعَ الجلدُ: گنجے پن کی وجہ سے کھال کا چھل جانا۔ اِستَقرَعَ ت الکرش: اوجھ کا سخت ہونا۔ القَرَعُ: (طب) گنجا پن سفید پھنسی جو اونٹ کے بچوں کو ہوتی ہے۔ اونٹوں سے خالی ان کی خوابگاہ، وہ جگہیں جن میں صرف گھاس ہو اور دوسری نباتات نہ ہو، کھلی۔ القَرعَۃُ عندالعامہ کھوپڑی، کاسہ سر عوام کہتے ہیں حرج فلانٌ بالقرعۃ فلاں شخص ننگے سر نکلا القَرعَةُ: سر میں گنج کی جگہ، اونٹوں سے خالی ان کی خوابگاہ۔ اَرضٌ قَرِعَةٌ: بنجر زمین۔ فَصِیلٌ قَرِیعٌ: پھنسی والا اونٹ کا بچہ۔ الاَقرَعُ مونث قَرعَاءُ ج قُرعٌ و قُرعَانٌ: بیماری سے ہونے والا گنجا۔ ـ من الحیّات: زہریلا سانپ کہ جس کی زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال گر گئے ہوں۔ ـــ من الغنم: بغیر سینگوں والی بکری (عامیہ) جَبَلٌ اَقرَعُ: بغیر نباتات کے پہاڑ۔ عُودٌ اَقرَعُ: چھال اتری ہوئی لکڑی۔ قِدحٌ اَقرَعُ: کنکری سے مانجھا ہوا تیر کہ جس میں نقوش وغیرہ ظاہر ہو جائیں۔ القَرعَاءُ الاَقرَعُ کی مونث: گھر کا صحن اَرضٌ قَرعَاءُ: چری ہوئی زمین۔ القُرَیعَاءُ: زمین جس کے کناروں پر پیداوار ہو اور درمیان سے خالی ہو۔

۵۔ قَرِعَ ـَ قَرَعًا و قَرَعًا الرجُلُ: مشورہ قبول کرنا۔ اَقرَعَ الشیئَ: کی طاقت رکھنا۔ ـــ الی الحق: کی طرف لوٹنا۔ القَرِعُ: مشورہ قبول کرنے والا۔

۶۔ اَقرَعَ: مشورہ قبول نہ کرنا، باز رہنا۔ ـــ فلانًا: کو روکنا۔ ـــ عنه: سے رکنا۔ الدابّةَ بلجامها: جانور کو لگام سے کھینچ کر روکنا۔ تقرَّعَ: الٹنا پلٹنا کہا جاتا ہے۔ بِتُّ اتقرَّعُ: میں بے چین رہا نیند نہیں آئی۔ اِنقَرَعَ: الٹنا پلٹنا۔ ـ عن الامر: سے رکنا۔ ـ عن الحق: سے باز رہنا۔ القَرِعُ: نہ سونے والا۔ المُقرَعُ من الخيل: وہ گھوڑا جس کو لگام کھینچ کر روکا جائے اور وہ اپنے سر کو بلند کرے۔

۷۔ اَقرَعَ الشرُّ: ہمیشہ رہنا۔ نعلَهٗ: جوتے میں موٹا پیوند لگانا۔ دارَهٗ آجرًا: گھر میں اینٹوں کا فرش لگانا۔

۸۔ اَقرَعَ المُسافِرُ: منزل سے قریب ہونا۔

۹۔ اِقترَعَ النارَ: آگ روشن کرنا۔

۱۰۔ القَرعُ واحد قَرعَةٌ: کدو۔ الکبیر (ن): کدو کی نسل کی بیضوی شکل کی سبزی۔ ظِفرٌ قَرِعٌ: تباہ شدہ ناخن۔ القُرعَةُ: توشہ دان۔ القَرعَةُ: چھلی ہوئی تلی کا توشہ دان۔ المِقرَعُ: گھی یا کھجور رکھنے کا برتن۔

۱۱۔ القَرعَوْنُ: بادام چھلکا سمیت (عامیہ سریانیہ)

۱۲۔ القَرعُومَۃُ: ٹوٹا ہوا مٹی کا برتن (عامیہ)

قرغ: القَراغُولُ: راستہ کا محافظ یہ تاتاری لفظ ہے اور اس کے لئے عربی لفظ خفیر ہے عوام الناس اسے کرکون کہتے ہیں۔

(ن) قَرَعَ الجرسَ: گھنٹی بجانا۔ سَمعَهٗ: کے کان تک پہنچنا۔ ـــ سنّهٗ: دانت پیسنا۔ ـــ سِنَّ الندَم ل / علی: پر پچھتانا، ہاتھ ملنا۔ قرعه ضمیرُهٗ: اس کے ضمیر نے اسے سخت کوفت پہنچائی، یا سخت ضرب لگائی۔ اس نے سخت پشیمانی محسوس کی۔ الکاس ل: کسی کا جام صحت نوش کرنا۔ قَرع واحد قرعة: تونبا، تونبی، پیٹھا، کدو، گھیا، لوکی۔ قرع ضروف: لوکی، کدو یا تونبے کی مختلف اقسام میں سے کوئی ایک خصوصا بوتل تونبا، جنگلی تونبا۔ قرع کوسئی: زوچینی، گرمیوں کے موسم کا بیلن کی شکل کا کدو جس کا پوست گہرا سبز اور لطیف ہوتا ہے۔ قَرعی: تونبے، تونبی، پیٹھا، کدو، گھیا، لوکی کا یا ان سے متعلق، خیاری قسم کے پودوں سے تعلق رکھنے والا جیسے کدو، پھوٹ، کھیرا، خربوزہ، خربوز اور اندرائن وغیرہ کے پودے۔ قُرعَة جمع قُرَع: قرعہ (اندازی) مخفی رائے دہی، بیلٹ، قرعہ اندازی کرنا (فوج میں) جبری بھرتی، قرعہ اندازی سے بھرتی، دکھائے بغیر ووٹ دینا۔ قرعة عسكريه: فوجی بھرتی۔ انفار القرعة: خاص دستہ کے رنگروٹ (نئے رکن) قُراع و مرضُ القُراع: جلدی بیماری، درد۔ قَریع: نہایت عمدہ، بہت خوشنما، چیدہ، منتخب۔ قریع الدهر: اپنے زمانہ کا سب سے بڑا ہیرو۔ اَقرَع: گنجا، خالی، ننگا، خارشتی، پپڑی دار، اِقتِراع جمع اقتراعات: دکھائے بغیر ووٹ دینا، بھرتی، لازمی فوجی خدمت کے لئے لوگوں کا انتخاب، ووٹ، انتخاب قارعة الطریق: سڑک کا درمیان، سڑک کا گولا، سڑک، شاہراہ۔ علی قارعة الطریق: کھلی سڑک پر

قرف: ۱۔ قَرَفَ ـِ قَرفًا الشیئَ: کو چھیلنا۔ و قرَّفَ القرحةَ: زخم کو چھیلنا۔ تقرَّفَ الجرحُ: زخم کا چھل جانا۔ القَرفُ (مص) ج قِرافٌ و قُرُوفٌ: ایک قسم کے چمڑے کا برتن جسے [illegible] کے چھلکے سے دباغت [illegible] دیتے ہیں۔ گہرا سرخ رنگ۔ القِرفُ ج قُرُوفٌ واحد قِرفَةٌ: درخت کی چھال، ہر چھال کو قرف کہتے ہیں اس سے ہے قِرفُ الرُّمّانِ: روٹی کا چھلکا جو تنور میں رہ جائے، زمین سے اکھڑی ہوئی چیز، ناک پر خشک رینٹ۔ القِرفُ: گہرا سرخ گویا وہ انار کا چھلکا ہے کہا جاتا ہے: اراك احمر قِرفًا: میں تم کو بہت سرخ دیکھ رہا ہوں۔ القِرفَةُ: چھال، انار کا چھلکا۔ (ن): دارچینی کی ایک قسم جس کو تج کہتے ہیں۔ اس پودا کا اصل گہوارہ جزیرہ سیلون ہے اس کے پتے بیضوی شکل کے ہوتے ہیں عموماً گرم ممالک میں ہوتا ہے اس کی شاخوں کے چھلکوں سے تیز ذائقہ گرم مصالحہ بنایا جاتا ہے۔ القَرفِیُّ و المُقرِفُ: وہ شخص جس کے رنگ میں سرخی جھلکتی ہو۔ القُرافَةُ: درخت کی چھال۔ القَرُوفُ ج قُرُفٌ و قُرُوفٌ: توشہ دان۔ الاَقرَفُ: بہت سرخی والا۔ المَقرِفُ: وہ جگہ جہاں سے چھال اتار دی گئی ہو۔

۲۔ قَرَفَ ـِ قَرفًا علی القوم: سے بغاوت کرنا، جھوٹ بولنا۔ ـــ الرجلُ: جھوٹ بولنا۔ القَرُوفُ ج قُرُفٌ و قُرُوفٌ: بہت ظلم کرنے والا، بڑا بے انصاف۔ سخت باغی۔

۳۔ قَرَفَ ـِ قَرفًا الرجُلُ: جھوٹ سچ ملانا۔ ـــ الشیئَ: کو ملانا۔ فلانًا بکذا: پر کا عیب لگانا، پر کی تہمت رکھنا۔ قَرِفَ ـــَ قَرَفًا فلانٌ المرضَ: مرض کے قریب ہونا۔ قارَفَ مُقارَفَةً و قِرافًا: کے قریب ہونا۔ ـــ الذنبَ: گناہ میں ملوث ہونا۔ قرَّفَ فلانًا بکذا: پر کا عیب لگانا، پر کی تہمت رکھنا۔ اَقرَفَ هٗ: کو برائی سے یاد کرنا۔ ـــ لَهٗ: کے قریب ہونا سے اختلاط کرنا۔ ـ بہ: کو تہمت لگوانا۔ ـ الجربُ الصحاحَ: کو بیماری کا چھوت لگنا۔ اِقترَفَ الذنبَ: گناہ کر لینا، گناہ کرنا کہا جاتا ہے قَرَفتُهٗ بالامرِ فاقترَفَ بِهٖ: میں نے اسے عیب لگایا اور اسے عیب لگ گیا۔

القَرَفُ: میل جول، مرض کا دوبارہ ہونا، بیماری کی چھوت، تہمت۔ القِرفَةُ: تہمت، جس کے اوپر تم تہمت لگاؤ، کہا جاتا ہے۔ فلانٌ قِرفتی: فلاں وہ شخص ہے جس پر میں نے تہمت لگائی اور کہا جاتا ہے بنو فلان قِرفتی: بنو فلاں وہ لوگ ہیں جن کے متعلق میرا گمان ہے کہ میرا مطلوب ان کے پاس ہے۔ المِقرافُ: بہت گناہوں کا ارتکاب کرنے والا۔

۴۔ قَرَفَ ـِ قَرفًا لعیاله: اپنے عیال کے لئے کمائی کرنا۔ اِقترَفَ: کمائی کرنا۔ ـ المالَ: کو جمع کرنا۔ القِرفَةُ: کمائی۔

۵۔ قرِف ۔ قَرَفًا منه: سے گریز کرنا، نفرت کرنا (عامیہ)۔ القَرَف: کسی گندے کام یا گندی چیز سے نفرت اور پرہیز کرنا (عامیہ)۔ المُقرِف: خسیس، حقیر، ـــ وجهٌ مُقرِفٌ بدصورت چہرہ۔

۶۔ القِرفُ و القَرِفُ و القَرِف: اچھی صفات والا، کہا جاتا ہے هو قِرفٌ او قَرِفٌ او قَرفٌ بكذا: یعنی وہ اس کے لائق ہے۔ رجلٌ مُقرُوفٌ: پتلی کمر والا مرد۔

۷۔ قَرفَصَ قَرفَصَةً: ہُ کے پاؤں کے نیچے دونوں ہاتھ اکٹھے کرکے باندھنا۔ ت العجوزُ: بڑھیا کا کپڑوں میں لپٹنا۔ القُرفُصی مثلثة القاف والفاء و القُرفُصاءُ و القُرُفصاءُ: اکڑوں بیٹھنا اور ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھنا یا گھٹنوں کے بل بیٹھنا اور پیٹ کو رانوں کیساتھ لگالینا کہا جاتا ہے قعد القرفصی او القرفصاء: وہ اکڑوں بیٹھا۔ القُرافِصُ: بہت مضبوط۔ القُرافِصَةُ: ڈاکو (جمع)۔

۸۔ قَرفَطَ الرجلُ: چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔ اِقرَنفَطَ: سمٹنا، اکٹھا ہونا۔

۹۔ المُقَرفَلُ من الاطعمة: لونگ سے خوشبودار کیا ہوا کھانا۔

قرق: ۱۔ قَرَقَ ۔ قَرقًا بفلان: کو دھوکا دینا۔

۲۔ قَرِقَ ـــ قَرَقًا ت الدجاجة: کڑکڑانا اور انڈے یا بچوں کا پروں کے نیچے کرنا۔ القُرقُ عندالعامة: خصیہ کا سوجن، بیان کرنے والے کی آواز کی نقل (عامیہ)۔ القِرقَةُ: انڈوں پر بیٹھنے والی مرغی یہ قرقت الدجاجة سے ماخوذ ہے یعنی وہ کڑکڑ کرتی ہے (عامیہ) المَقرُوقُ: قرق کی وجہ سے تکلیف زدہ (عامیہ)

۳۔ قَرِقَ ـــ قَرَقًا: (ہموار جگہ میں چلنا)۔ القِرقُ و القَرقُ و القَرِقُ: ہموار جگہ۔

۴۔ القُرقُ ج اَقرَاقٌ: بری چیز، عادت، حقیر لوگ، جماعت کہا جاتا ہے جاء قرق من الناس: لوگوں کی ایک جماعت آئی ہے۔

۵۔ القُرقُبُ (ح) مخروطی چونچ والا چھوٹا سا پرندہ۔

۶۔ قَرقَدَ الخبزُ و نحوُهُ: خشک ہونا (عامیہ سریانیہ)

۷۔ القَرقَذانُ و القَرقَذُونَ (ح): سنجاب۔

۸۔ قَرقَرَ قَرقَرَةً البعیرُ: اونٹ کا بڑبڑانا۔ ـــ ت الحمامة او الدجاجة: کبوتروں کا غرغوں کرنا، مرغی کا کڑکڑانا ـــ البطنُ: پیٹ کا گڑگڑانا ـــ الرجلُ فی ضحکه: بہت زور سے ٹھٹھا مارنا ـــ الشرابُ فی حلقه: پانی وغیرہ کا حلق میں آواز کرنا۔ القَرقَرَةُ (مص) ج قَرَاقِرُ: کبوتر کی آواز، بہت زور کی ہنسی۔ القَرقَارُ: اونٹ کی بڑبڑاہٹ۔ القُراقِرُ و القُراقِرِیُّ: اچھی آواز سے حدی پڑھنے والا۔ القُراقِرَةُ: بہت بک بک کرنے والی عورت۔ و القَرقَارَةُ: اونٹ کا جھاگ جو مستی کے وقت نکلتا ہے۔

۹۔ القَرقَرُ ج قَرَاقِرُ: پست نرم زمین۔ القَرقَرَةُ ج قَرَاقِرُ: چہرہ کی کھال یا اس کے ظاہری محاسن، نرم پست زمین۔ القَرقَارَةُ: لمبی گردن کا شیشے کا کپ۔ القُرقُورُ ج قَرَاقِیرُ: لمبی کشتی۔ القَرقُورُ عندالعامة (ح): چھوٹا سا چوزہ (سریانیہ)۔

۱۰۔ قَرقَسَ الکلبَ وبه: کتے کو قرقوس کہہ کر پکارنا۔ القِرقِسُ (ح): کھٹمل جیسا کیڑا القَرقُوسُ: سخت میدان۔

۱۱۔ قَرقَشَ الشیئَ الصلبَ کالقضامی ونحوه: سخت چیز کھانا (عامیہ سریانیہ) القَراقِیشُ: چینی یا شہد ملا کر تیل میں پکائی ہوئی میدے کی چپاتیاں جو ٹھنڈی ہو کر خستہ ہو جاتی ہیں۔ (عامیہ)۔ مغز وغیرہ بھر کر گھی میں تلی ہوئی میدے کی پوڑیاں (عامیہ) نرم مرمری ہڈیاں (عامیہ)۔

۱۲۔ قَرقَصَ بالجرو: کتے کے پلے کو بلانا۔ القُرقُوصُ ج قَرَاقِیصُ: کتے کا پلا۔

۱۳۔ قَرقَعَ قَرقَعَةً: ٹھک ٹھک کرنا (عامیہ)۔

۱۴۔ قَرقَفَ قَرقَفَةً من البرد: کپکپی زدہ ہونا۔ قَرقَفَ هُ البردُ: پرسردی کا کپکپی ڈالنا۔ ـــ الرجل فی الضحك والحمام فی الهدیر: آدمی کا ہنسنے میں اور کبوتر کا غرغوں کرنے میں زیادتی کرنا۔ یعنی بہت ہنسنا یا غرغوں کرنا القَرقَفُ: شراب، ٹھنڈا پانی۔ و القُرقُفُ (ح): مخروطی چونچ والا چھوٹا سا پرندہ جسے قُرقُب بھی کہا جاتا ہے۔ دِیكٌ قَرَاقِفٌ: بلند آواز مرغ۔ القَرقُوفُ: درہم، شراب۔

۱۵۔ القُرقُلُ و القَرقَلُ ج قَرَاقِلُ: بے آستین کا کرتا۔

۱۶۔ قَرقَمَ الصبیَّ: بچے کو بری خوراک دینا۔ المُقَرقَمُ: وہ جو جوان نہ ہو اور قوت نہ پکڑ سکے۔

قرل: قِرِلیُّ: (ح) ایک چوکنا آبی پرندہ جو مچھلیوں کو اپنی خوراک بناتا ہے۔

⊙ قرف ـــ قَرفًا هُ: کو چھیلنا، کی چھال اتارنا، کو تراشنا۔ قَرِفَ ۔ قَرَفًا هُ: سے سخت نفرت کرنا، کراہت محسوس کرنا، سے جی متلانا۔ قَرَّفَ هُ: کو چھیلنا، کی چھال اتارنا، کو تراشنا۔ ـــ: قابل نفرت ہونا، کراہت جگانا۔ قارَفَ هُ: (گناہ) میں پھنسنا، راغب ہونا، (خواہش) کے آگے جھک جانا۔ اِقتَرَفَ هُ: (جرم کا) ارتکاب کرنا، کا مرتکب ہونا، کو کرنا۔ قَرَف: نفرت، تنفر، کراہت، سخت نفرت۔ قِرفَةٌ جمع قِرَف: چھلکا، چھال، کھال، چمڑی، جلد، پپڑی، پرت، کھرنڈ، جلد کی بھوسی، سر کی خشکی، بفا، میل کی تہہ، دارچینی۔ قَرافَة: قبرستان، گورستان، شہر خموشاں، قاہرہ کے قریب مقطم کی پہاڑیوں کے نیچے واقع قبرستان۔ قَریفَة: بدمذاق، بدمزاج۔ قَرفان: نفرت پیدا کردہ، جی متلایا ہوا، بیمار اور تھکا ہوا۔ اقتراف: (جرم) کا ارتکاب۔ مُقرِف: قے آور، قابل نفرت، نفرت، انگیز، کریہ، گھناؤنا، مُقتَرِف: (جرم کا) مرتکب۔

⊙ قَرفَصَ: زمین پر، رانیں پیٹ کے ساتھ لگا کر اور بازو کی ٹانگوں سے لپیٹ کر بیٹھنا، قرفصاء: اس طرح بیٹھنا اس طرح بیٹھنے کی وضع۔ جلَسَ (قعَدَ) القرفصاء: ایڑیوں کے بل بیٹھنا۔ قِرفال (واحد قرفالة) باقلا، موٹھ، ونچ Vetch قُرقُذان: گلہری۔

⊙ قرقر قَرقَرَةً: لڑھکنا، (پیٹ کا) گڑگڑانا، (اونٹ کا) بلبلانا، (کبوتر کا) کوکنا، (بلی کا) خرخر کرنا۔ قُرقُوش جمع قَراقِیش: کرکری ہڈی، مرمری ہڈی، چپنی ہڈی۔ قَرقُوشَة جمع قَراقِیش: ایک قسم کا خستہ بسکٹ۔ مُقَرقَش: خستہ، بھربھرا، خستہ کیا ہوا، بھربھرا کیا ہوا قَرقَضَ هُ: کو کاٹنا، کترنا۔ قَرقَضَ علی اسنانِه: دانت پیسنا۔

قرم: ۱۔ قَرَمَ ـــ قَرمًا و قُرُومًا و مَقرَمًا و قَرَمانًا الصبیُّ و البَهمُ: تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرنا۔ قَرَمَ ـــ قَرمًا الطعامَ: کھانا کھانا۔ الرجلَ: کو گالی دینا عوام کہتے ہیں۔ قرم القضیبَ و نحوَه: اس نے کٹی ہوئی شاخ کا سر قلم کر دیا۔ قَرَّمَ هُ: کو کھانا سکھانا۔ تَقَرَّمَ الصبیُّ و البهمُ: تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرنا۔ القَرمُ (مص) ج قُرُومٌ: اونٹ کی ناک پر داغ، جوئے کے تیر کی علامت۔ القَرمَةُ: اونٹ کی ناک کی کٹی ہوئی کھال۔ القُرمَةُ: اونٹ کی ناک کی کٹی ہوئی کھال ـــ و القِرامُ: اونٹ کے ناک کاٹنے کی جگہ۔ قُرمَةُ الشجرة و قِرمِیَّتُها عند العامه: کٹے ہوئے تنے کا نچلا باقی ماندہ حصہ، ٹھنٹھ۔ القُرامَةُ: اونٹ کی ناک کی کٹی ہوئی کھال، اونٹ کی ناک سے کٹا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا، اونٹ کا سینہ، عیب۔ الاَقرَمُ مونث قَرماءُ ج قُرمٌ: داغ لگا ہوا اونٹ،

۲۔ قَرَمَ ـــ قَرمًا الشیئَ: کو چھیلنا۔ القُرامَةُ: روٹی کا وہ حصہ جو تنور میں لگا ہوا رہ جائے۔

۳۔ قَرَمَ ـــ قَرمًا الرجلَ: کو قید کرنا۔

۴۔ قَرِمَ ـــ قَرَمًا الی اللحم: گوشت کا بہت خواہشمند

ہونا، کہاجاتا ہے قَرِمْتُ الی لقائِہ: میں اس کی ملاقات کا شائق ہوا۔

۵۔ قَرَّمَ و اَقْرَمَ الفحلَ: سانڈ کو جفتی کے لئے کام اور سواری سے فارغ رکھنا۔ اِسْتَقْرَمَ البکرُ قبل اوانہ: وقت سے پہلے سانڈ بننا۔ القَرْمُ ج قُرُومٌ: سانڈ جسے سواری اور کام سے فارغ رکھا جائے، سردار، عظیم، بڑا۔ الاَقْرَمُ مونث قَرْمَاءُ ج قُرْمٌ من الجمال: اونٹ جو باندھا نہ جائے۔

۶۔ القِرَامُ: سرخ پردہ یا باریک کپڑا۔ القَرَمُ (ن): ایک پودا جو سفیدی اور موٹائی میں چنار کے درخت کی مانند ہوتا ہے۔

۷۔ قَرْمَدَ قَرْمَدَةً الکتابَ کو باریک لکھنا، قریب قریب لکھنا۔ فی المشی قریب قریب قدم رکھنا۔

۸۔ قَرْمَدَ قَرْمَدَةً الشیئَ پر قرمد کا طلاء کرنا۔ القَرْمَدُ: ہر وہ چیز جس کو زینت کے لئے کسی پر لگائیں جیسے زعفران اور گچ وغیرہ، پختہ ٹھیکری۔ اینٹ (یونانیہ)۔ القِرْمِیدُ واحد مونث قِرْمِیدَةٌ: اینٹ، جس سے پلاسٹر کیا جائے جیسے گچ وغیرہ۔ (یونانیہ)۔

۹۔ القَرْمُودُ ج قَرَامِیدُ (ح): پہاڑی بکرا (ح): پہاڑی بکری کا بچہ۔ القِرْمِیدَةُ: ج قَرَامِیدُ (ح): پہاڑی بکری۔

۱۰۔ القِرْمِزُ: سرخ رنگ۔ عند الاساکفہ: وہ کھال جو سرخ رنگ سے رنگی ہوئی ہو، القِرْمِزِیُّ: سرخ رنگ کا، القِرْمِزِیَّةُ (ح): ایک سرخ رنگ کا پتنگا، یہ عام شاہ بلوط کے درخت پر رہتا ہے جسے قدیم زمانے میں کپڑا رنگنے میں استعمال کرتے تھے۔

۱۱۔ قَرْمَشَ ہٗ: کو بگاڑنا۔ — الشیئ: کو جمع کرنا عام لوگ لفظ قرمش کو چنے وغیرہ کھانے کے وقت استعمال کرتے ہیں۔ القَرْمَشُ و القِرْمِشُ و القِرْمِیشُ من الناس: طرح طرح کے لوگ۔

۱۲۔ قَرْمَصَ و تَقَرْمَصَ: سردی زدہ آدمی کا گرمی حاصل کرنے کے لئے گڑھے میں داخل ہونا۔ القَرَامِیصُ: گرمی حاصل کرنے کے لئے گڑھے بنانا۔ القُرْمَاصُ ج قَرَامِیصُ: تنگ منہ کا گڑھا جو اندر سے چوڑا ہو جس میں سردی زدہ گرمی حاصل کرتا ہے، بھوبھل میں روٹی پکانے کی جگہ، کبوتر کا گھونسلہ۔ القُرْمُوصُ ج قَرَامِیصُ: شکاری کا گڑھا، زمین میں پرندہ کا گھونسلہ۔

۱۳۔ قَرْمَطَ قَرْمَطَةً الکتابَ: باریک اور قریب قریب لکھنا۔ فی خطوہ قریب قریب قدم رکھ کر چلنا۔ عند العامۃ: ایک دوسرے کے قریب کرنا اور تنگ کرنا۔ القَرْمَطَةُ عند العامۃ: ایک دوسرے کی نزدیکی، تنگی۔ القُرْمُوطُ ج قَرَامِیطُ (ح): مچھلی کی ایک قسم، گبریلا کی گولی۔ القَرَامِطَةُ واحد قَرْمَطِیٌّ: شیعوں کا ایک غالی فرقہ۔

۱۴۔ قَرْمَلَ ہٗ: کو پچھاڑنا۔ القَرْمَلُ واحد قَرْمَلَةٌ (ن): بغیر کانٹوں کے ایک کمزور درخت۔ القِرْمِلُ ج قَرَامِلُ: دو کوہانوں والا اونٹ۔ القَرَامِلُ و القَرَامِیلُ من الشعر و الصوف: بالوں یا اون کا بنا ہوا عورت کا موباف

ق قَرَمَ ـِ قَرْمًا ہ: کاٹنا، کترنا، قَرْمٌ جمع قُرُوم: اسپ نر، سانڈ گھوڑا، مالک، مِقْرَمٌ جمع مَقَارِم: چادر، پلنگ پوش۔ قُرْمَةٌ جمع قُرَم: درخت کا ٹھنٹھ، گیلی لکڑی کا بڑا ٹکڑا۔

ق قَرْمَدَ ہ: پلستر کرنا، ٹائلیں لگانا، قَرْمَد: پلاسٹر، پلاسٹر آف پیرس۔ قِرْمِید: (واحد قِرْمِیدَة) جمع قَرَامِید: (پکی) اینٹ، چھت کی ٹائل، پلاسٹر آف پیرس۔ الحُمَّی القِرْمِزِیَة: ایک متعدی مرض جس سے جلد پر قرمزی رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں۔

ق قَرْمَشَ ہ کوئی خشک چیز کھانا، چرمر کرنا۔ کترنا مُقَرْمَش: خشک، خستہ، بھربھرا، کرارا۔

قرن :۱۔ قَرَنَ ـــَ قَرْنًا الشیئَ بالشیئ: کو سے باندھنا ملانا۔ ـــ الثورَین: دو بیلوں کو ایک جوئے میں باندھنا۔ البعیرین: دو اونٹوں کو ایک رسی میں باندھنا۔ قَرَنَ ـُ قِرَانًا الفرسُ: دوڑنے میں پچھلی ٹانگوں کا اگلی ٹانگوں کی جگہ میں پڑنا۔ بین الشیئ و الشیئ: کو جمع کرنا۔ قَرِنَ ـَ قَرَنًا: ملی ہوئی بھوؤں والا ہونا صفت: اَقْرَنُ ـ قَرَّنَ ہٗ: کو جمع کرنا باندھنا کہا جاتا ہے۔ قُرِّنَتِ الاُسَارٰی فی الحِبَالِ قیدی رسیوں میں باندھے گئے۔ قَارَنَ قِرَانًا و مُقَارَنَةً ہٗ: کا ساتھی ہونا، سے ملنا۔ اَقْرَنَ بین الامرین: کو جمع کرنا۔ (قَرَنَ افصح ہے) ـــ الرجلُ: دو تیر چلانا، دو قیدیوں کو ایک رسی میں لانا۔ ـــ ہٗ: کا ہمسر ہونا، کو ایک رسی میں بندھے ہوئے دو اونٹ دینا۔ ـــ للامر: پر توانا ہونا۔ کی طاقت رکھنا ـــ علی غریمہ: قرضدار پر تنگی کرنا۔ تَقَارَنَ الرجلان: ایک دوسرے کا ساتھی ہونا۔ اِقْتَرَنَ الشیئُ بغیرہ: سے متصل ہونا ملنا۔ اِسْتَقْرَنَ لفلان: کا ہمسر ہونا۔ ـــ الرجلُ للامر: پر توانا ہونا۔ القَرَنُ ج قُرُونٌ و قِرَانٌ: درخت کی چھال سے بٹی ہوئی رسی، بال یا اون کا ایک گچھا، عورت کے گیسو۔ ـــ ج قُرُونٌ: ایک زمانہ کے لوگ، سو سال (کہا جاتا ہے۔ ھو علی قرنی: وہ میری عمر کا ہے)، ایک گروہ کے بعد ایک گروہ، زمانے کا ایک وقت۔ قرنُ الشیطان و قرناہ: شیطان کی رائے اور تسلط کے پابند۔ ذو القرنین: بادشاہ اسکندر مکدونی کا لقب، کیونکہ وہ مشرق و مغرب کے کناروں تک پہنچا منذر بن ماء السماء کا لقب جس کے سر کے دونوں طرف لٹیں تھیں۔ القِرْنُ ج اَقْرَانٌ: کفو، ہمسر، مقابل، شجاعت یا علم میں نظیر۔ القَرْنُ (مص) ج اَقْرَانٌ: دوسرے سے ملا ہوا، رسی جس میں دو اونٹ بندھے ہوئے ہوں۔ القِرَانُ ج قُرُنٌ قیدی کے باندھنے کی رسی۔ ہل کے بیلوں کی گردن میں باندھنے کی چھال کی رسی، رسی جس کو باندھ کر اونٹ کو کھینچیں۔ القُرَانٰی: نزدیک، تانت جو اونٹ کی کھال سے بٹی ہوئی ہو، کہا جاتا ہے جاء وا قُرَانٰی: وہ ملے ہوئے آئے۔ القَرُونُ: ایک مرتبہ میں دو دو لقمے کھانے والا۔ وہ جانور جس کی پچھلی ٹانگیں اگلی ٹانگوں کی جگہ میں دوڑنے میں پڑیں، وہ اونٹنی جس کے بیٹھنے میں دونوں گھٹنے مل جائیں۔ ـ و القَرُونَةُ: نفس۔ القَرِینُ ج قُرَنَاءُ: دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا، ساتھی، مصاحب، شوہر، نفس۔ القَرِینَةُ ج قَرَائِنُ: القرین کا مونث بیوی۔ ـــ عند النساء: چھپنے والی عورت جو کبھی کبھی ظاہر ہو، ان کا خیال ہے کہ ہر عورت کے لئے ایک قرینہ یعنی نوکرانی ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے شر دفع کرنے کے لئے تعویذ پہناتی ہیں جسے وہ ثوب القرینہ کہتی ہیں۔ قرینۃُ الکلام: جو کلام کے مراد پر دلالت کرے۔ دُوْرٌ قَرَائِنُ: آمنے سامنے کے مکانات۔ الاَقْرَنُ مونث قرناء: ملی ہوئی بھوؤں والا اِقْتِرَانُ او اجتماعُ القمر (او سیارۃ) بالشمس (فلک): آفتاب و ماہتاب کا ایک ساتھ ہونا جبکہ زمین ان کے درمیان نہ ہو۔ سورج کو اس وقت تک گرہن نہیں لگتا جب تک چاند سے نہ ملے۔ المِقْرَنُ: ہل کا جوا۔ المُقْرَنَةُ: چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو آس پاس ہوں۔

۲۔ قَرِنَ ـ قَرْنًا ذو القرن: بڑے سینگ والا ہونا۔ اَقْرَنَ الرجلُ: سینگ والے مینڈھے کی قربانی دینا۔ ـــ ت الثُریّا: بلند ہونا۔ القَرْنُ ج قُرُونٌ: جانور کا سینگ ـــ فی الانسان: انسان کے سر کا وہ حصہ جہاں پر جانور کے سینگ نکلتے ہیں۔ قرنُ الشمس: آفتاب کی پہلی شعاع۔ ـــ جمع قُرُونٌ و قِرَانٌ: پہاڑ کی چوٹی، چھوٹی پہاڑی، قلعہ۔ ـــ من الجراد ٹڈی کے سر کے دو بال۔ ـــ من القوم: سردار۔ ـــ من السیف: تلوار کی دھار۔ ـــ قرنُ الغزال (ن): ایک دانے دار پودا جس کے دانے کھائے جاتے ہیں۔ وحید القرن (ح): گینڈا۔ القَرْنُ ج قِرَانٌ: تلوار، تیر۔ ـــ ج

اَقْرانٌ: ترکش ۔ القُرنَۃُ ج قُرَنٌ: ہر چیز کا اٹھا ہوا کنارا، تلوار یا نیزہ کی دھار۔ من البیت ونحوہ: کنارا (عامیہ)۔ رجل قارن: تیر و تلوار سے مسلح۔ الاَقْرَنُ مونث قَرْناءُ: دو سینگوں والا۔ حیۃٌ قَرْناء: سانپ جس کے سر پر گوشت کے دو ٹکڑے ابھرے ہوئے ہوں۔ القَرَنْاءُ (ن): لوبیا۔ القَرنِیّاتُ او القَطانِیّاتُ (ن): نباتاتی جنس جس کا دانہ دو ٹکڑوں والا ہوتا ہے اور کئی نباتات پر مشتمل جو زیادہ تر انسانی غذاء جانور کے چارہ کے طور پر یا پھر صنعت میں مستعمل ہیں جیسے لوبیا، چنا، مسور، نیل وغیرہ۔ المُقَرَّنُ: جس کیلئے سینگ کے مشابہ بنایا جائے، چار کونوں والا، بلند کنارے والا۔ المُقَرَّنَۃُ: مُقَرَّن کا مونث۔

۳۔ اَقْرَنَ عنہ: سے عاجز ہونا۔ عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا۔

۴۔ اَقْرَنَ الدم فی العرق: خون کا رگ میں زیادہ ہونا اور جوش مارنا۔ الدُمَّلُ: پھوڑے کا پکنا اور پھوٹنے کے قریب ہونا۔ ۔ت افاطیرُ وجہِ الغلام: لڑکے کے چہرے پر پھنسیاں نکلنا۔ اِسْتَقْرَنَ ۔ الدمُ فی العرق: خون کا رگ میں زیادہ ہونا۔ ۔ الدُمَّلُ: پھوڑے کا پھٹنے کے قریب ہونا۔

۵۔ اَقْرَنَ الرجُلُ: ہر رات میں ایک سلائی سرمہ لگانا۔ القَرِیْنُ العینِ: سرگین آنکھ والا

۶۔ اَقْرَنَ ت السماءُ: لگاتار برسنا۔ القَرْنُ من المطر ج قُرُون: بارش کا جھلا۔

۷۔ قَارُوْنٌ: موسیٰ علیہا السلام کے دور کا مالدار ترین آدمی۔ اس کا نام کریزوس تھا اور وہ لیدیا کا آخری بادشاہ تھا۔ عربوں کی مثل ہے: اغنی من قارون: قارون سے بھی زیادہ مالدار القَرّانُ: شیشی۔

۸۔ قَرْنَبَ اُذُنَیْہِ: کانوں کو اٹھانا (عامیہ) القَرْنَبٰی (ح): لمبی ٹانگوں والا ایک کیڑا جو گبریلا کے مشابہ ہوتا ہے اور مثل ہے۔ القرنبی فی عین امھا حسنۃ: قرنبی اپنی ماں کی نگاہ میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔

۹۔ قَرْنَسَ البازی: باز کی آنکھوں کو سینا۔ ۔ الدیکُ: مرغ کا لڑائی سے بھاگ جانا۔ قُرْنِسَ البازی: بمعنی قَرْنَسَ: القُرْنَاسُ والقِرْنَاسُ: پہاڑ کا آگے کو نکلا ہوا حصہ، چرخے کا تکلا۔ سقف مُقَرْنَسٌ: سیڑھی کی طرز پر بنی ہوئی چھت۔

۱۰۔ القَرَنْفُلُ والقَرَنْفُوْلُ واحد قَرَنْفُلَۃ وقَرَنْفُوْلَۃٌ (ن): لونگ۔ ایک پودا جو تزئین و آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے اس کے خوشبودار پھولوں کا رنگ سفید اور ارغوانی ہوتا ہے۔ جن سے خوبصورت گلدستے بنائے جاتے ہیں۔ یورپ، شمالی افریقہ اور ایشیا میں اس کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں عوام اسے کبش القرنفل کہتے ہیں (یونانیہ) المُقَرْفَلُ من الاطعمۃ: لونگ سے خوشبودار کیا ہوا کھانا۔

۱۱۔ القَرَانِیَا (ن): ایک پودا جس کا اصلی گہوارہ کرہ ارض کا نصف شمالی حصہ ہے شرق اوسط میں اس کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں اس کا پھل کھایا جاتا ہے۔

قَرَنَ ـِ قَرْنًا ہ ب/الی: سے جوڑنا، ملانا، متحد کرنا، مربوط کرنا کو کا شریک کرنا، کو سے یکجا کرنا، کا سے تعلق پیدا کرنا۔ ہ الی: کو میں ملانا، شامل کرنا۔ ہ: کو جوڑنا، ملانا، لگانا، کو اکٹھا رکھنا، اکٹھا باندھنا۔ قَارَنَ ہ: کو سے متحد کرنا، کے ساتھ مل کر کام کرنا، کا شریک ہونا۔ ہ: کے ساتھ بیک وقت ہونا۔ بین ۔ و بین / ہ ہ ب: کا سے مقابلہ کرنا، موازنہ کرنا۔ بین شیئین: دو چیزوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، موازنہ کرنا۔ بین ۔ وبین: میں موازنہ کرنا۔ بینَ شیئین: دو چیزوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنا۔ اَقْرَنَ بین شیئین: دو چیزوں کو ملانا، یکجا کرنا، باہم مربوط کرنا۔ اِقترن ب: سے جڑنا، ملنا، یکجا ہونا، متحد ہونا، یکجا ہونا، مربوط ہونا، میں شریک ہونا، شرکت کرنا، سے متعلق ہونا، مستلزم گردانا جانا، سے شادی شدہ ہونا، سے شادی کرنا۔ ۔: جڑنا، ملنا، باہم مربوط ہونا، باہم منتھی ہونا، جوڑی دار ہونا، باہم بندھا ہونا، باہم جکڑا ہوا ہونا، باہم مربوط ہو جانا۔ اِسْتَقْرَنَ: جڑے ہوئے ہونا، پھوڑے کا پکنا، پھوڑے میں پیپ پڑنا۔ قَرْن جمع قُرُون: (جانور کا) سینگ، ہوا باجے کا سینگ۔ عضو لمس، سونڈ، حشرات الارض جیسے کیڑوں اور قشریوں وغیرہ کے سروں سے سینگوں کی طرح آگے کو نکلے ہوئے تاروں میں سے ایک تار، (پہاڑ کی) چوٹی، نکلتے سورج کا سب سے پہلے نظر آنے والا حصہ، غشائی کیسہ، کویا، خول، ڈوڈا، پھلی، صدی ام القرن: گینڈا۔ وحید القرن: گینڈا۔ ذوالقرنین: دو سینگوں والا (سکندر اعظم کا لقب) قرنُ البحر: مونگا، حجر البحر، مرجان۔ قرن سَمْعِی: کان کا پردہ، القرون الوُسْطیٰ ازمنہء وسطی: (کلاسیکی عہد سے نشاۃ ثانیہ تک کا زمانہ) قَرْنِیَۃ: قرنیہ (آنکھ کے ڈھیلے اور پتلی پر چھائی ہوئی شفاف جھلی، آنکھ کے ڈھیلے کا بیرونی پردہ) قرنیہ چشم۔ قِرْن: جمع اَقْرَان: جنگ میں مد مقابل، جوڑ، ساتھی، ساجھی، ہم جولی، ہم چشم، ہم رتبہ، ہمسر، یکساں۔ قَرْنَۃ جمع قَرْن و قَرَائِن: باہر نکلتا ہوا زاویہ، کونہ، گوشہ۔ قَرِین جمع قُرَنَاء: بندھا ہوا، جڑا ہوا، گانٹھا ہوا، مربوط، متحد، ساتھ ملایا ہوا، یکجا کیا ہوا، پیوستہ، باہم ترکیب پایا ہوا، الحاق کیا ہوا، ملحق، شریک کار بنایا ہوا۔ ساتھی، رفیق، ہمدم، شوہر قَرِینَ: اس سلسلہ میں، اس ضمن میں، سے ملکر، کے ساتھ، پر مُنْقَطِعُ القرین: بے نظیر، یکتا، یگانہ، لاثانی، بے مثال۔ فقید المثال، سے منفرد، عدیم المثال۔ قَرِیْنَۃ جمع قرینات: بیوی، عورتوں کے سروں پر مسلط آسیب (مونث) زچگی کا آسیب، تشنج حمل، جمع قَرَائِن: تعلق، جوڑ، رشتہ، الحاق، ربط، میل جول، پیوستگی، اتصال، ہم رنگی، سیاق عبارت، سیاق و سباق، قرینہ، اشارہ، دلیل، دلالت۔ السَیِّدَۃُ قرینتُہُ: اس کی بیوی، بیگم (رسمی انداز) قَرَائِنَ الاَحْوال: حالات کی لڑیاں، اشارات، علامات حقائق پر مبنی شہادت۔ اَقْرَن مونث قَرْنَاء: سنگدل (مجازا)، سخت، سینگوں والا، شاخ دار، باہم بڑھی ہوئی بھنوں والا۔ حَیَّۃ قرناء: شاخ دار سانپ۔ قِرَان: قریبی اتحاد، قریبی تعلق، کسی سیارے کا وہ مقام جب وہ زمین یا کسی اور سیارے اور سورج کے ساتھ ایک ہی قطار میں ہوتا ہے۔ دو اجرام فلکی کا قران۔ مُقَارَنَۃ جمع مقارنات: موازنہ۔ مُقَارَنَۃ اللُغات: لسانیات کا تقابلی جائزہ۔ اِقتران: تعلق، اتحاد، الحاق، کڑی، رابطہ، رشتہ، لگاؤ، واسطہ، جوڑ، بیک وقت باہم دگر عمل یا اثر، دو اجرام فلکی کا قران، نیا چاند، ہلال، شادی، بیاہ۔ مَقْرُون ب: سے جڑا ہوا، ملایا ہوا، جوڑا ہوا، ربط کیا ہوا، مربوط، یکجا کیا ہوا، متحد، ملحق، شریک کیا ہوا۔ مقرون الحاجبین: جڑی ہوئی بھنوں والا۔ مُقَارِن: تقابلی۔ قرنبیط: گوبھی، پھول گوبھی۔ قَرَنْفُل: گلنار، لونگ، لونگ کا درخت قَرَہ جُوز: تمثیلی کھیل کا اہم کردار۔

قرہ: قَرِہَ ـَ قَرَهًا وتَقَرُّہًا: داد کی بیماری سے کھال میں سوراخ ہو جانا، صفت اَقْرَہُ مونث قَرْھَاءُ ج قُرْہٌ۔ ۔ جلدُہُ: مار کی شدت سے کی جلد کا چھلنا یا سیاہ ہو جانا القَارِہُ (فا) من الجلد: خشک کھال۔

قرو: ا۔ قَرَا ـُ قَرْوًا الیہ: کا قصد کرنا۔ ۔ بالرمح فلانًا: کو نیزہ مارنا صفت مذکر قَارٍ ج قُرَاۃٌ و قَارُوْنَ مونث قَارِیَۃ ج قَوَارٍ و قَارِیَاتٌ ۔ و اِقْتَرٰی واِسْتَقْرٰی الامرَ: کا تتبع کرنا۔ القَرْوُ: (مص) ج قُرُوٌّ و اَقْرَاء واَقْرٍ و قُرِیٌّ: نہر کی مانند لمبا حوض، کوہلو کی نالی، ایک ہی طریقے کی چیزیں، کہا جاتا ہے: ترکتھم قَرْوًا واحدا: میں نے ان کو ایک طریقہ پر چھوڑا اور کہا جاتا ہے۔ قصیدتان علی قَرْوٍ واحدٍ: دو قصیدے ایک ہی روی پر، اور کہا جاتا ہے

تَرِكَتِ الارض قروًا: تمام زمین پر بارش چھاگئی۔
اصبحت الارضُ قروا واحدا: زمین کی سطح پانی سے ڈھک گئی۔والقَروَةُ والقِروَةُ والقُروَةُ: کتے کا ٹھیکرا۔القَرواءُ: عادت۔القِروی: عادت کہاجاتا ہے۔رجع الی قرواه: وہ اپنی عادت پر لوٹ گیا۔
القَرِیُّ: ایک ہی طریقہ کی چیزیں۔قَرِیُّ القَصِیدَةِ: قصیدہ کاروی۔
۲۔اَقرٰی اِقراءً: کی پیٹھ میں درد ہونا۔القَرا ج اَقراءٌ وقِروانٌ (ع ا) پیٹھ۔القِروانُ ج قِروانات (ع ا) پیٹھ یا پیٹھ کا درمیانی حصہ۔ناقةٌ قَرواءُ: لمبے کوہان والی اونٹنی (جمل کو اقری نہیں کہاجاتا)۔
المُقرَوری: لمبی پیٹھ والا۔
۳۔اِستَقرَی الدُّمَّل: پھوڑے کا پیپ والا ہونا۔القَروُ ج قُرُوّ واَقراءٌ و اَقرٍ و قُرِیٌّ: کھجور کے درخت کا نچلا حصہ جسے کھود کر اس میں نبیذ بنایا جائے، چھوٹا برتن، لکڑی کا پیالہ۔
۴۔القَرا (ن): کدو۔القَروُ ج قُرُوٌّ و اَقراءٌ و اَقرٍ و قُرِیٌّ: کھوکھلا بانس، زمین جس کو طے نہ کیا جاسکے۔
والقَروَةُ: خصیتین کی کھال کی کھنچاوٹ۔قَروَةُ الرأس: سر کا کنارا۔القَرواءُ: وبر۔القَروانِیُّ: خصیتین کی جلد کی کھنچاوٹ والا۔المَقرٰی ج مَقارٍ: ٹیلہ کی چوٹی۔شاةٌ مَقروَّةٌ: جس کے سر میں ایک لکڑی لگادیتے ہیں تاکہ وہ اپنے دودھ کو پی نہ سکے۔
○ استقری ۵: کا تعاقب کرنا، کا مطالعہ کرنا، کی تفتیش کرنا، تحقیق کرنا، کا کھوج لگانا۔قَرو جمع قُرُو: پانی پلانے کا حوض۔خشب قَرو: بلوط، شاہ بلوط (لکڑی)
اِستقراء: استقراء (مخصوص حقائق سے بذریعہ استخراج عمومی اصول وضع کرنے کا طریقہ یا نتائج کا حصول۔
اِستقرائی: استقرائی۔قَرواطیا: کروا تیا (ملک)
قَرواطی: کرواتیا کا باشندہ۔
قری: ا۔قَرٰی — قِرًی وقَراءً الضیفَ: مہمان کی میزبانی کرنا۔اَقرٰی اِقراءً: مہمانی طلب کرنا۔
اِقترٰی: مہمانی طلب کرنا۔— الضیفَ: مہمان کی میزبانی کرنا۔اِستَقرٰی: مہمانی طلب کرنا۔القِرٰی: جو مہمان کے سامنے پیش کیا جائے۔المِقراءُ مونث مِقراة و مِقراءُ: میزبان، بہت مہمانی کرنے والا۔
المِقرٰی: مونث مِقراة و مِقراء بمعنی مِقراءُ۔و المِقراةُ ج مَقارٍ: بڑا پیالہ جس میں مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا جائے۔
المَقارِیُ: ہانڈیاں۔
۲۔قَرٰی — قَرْیًا و قَرْیًا الماءَ فی الحوض: حوض میں پانی جمع کرنا۔البعیرُ و کلُّ ما اجترَّ: اونٹ اور ہر جگالی کرنے والے جانور کا جگالی کو جبڑے میں جمع کرنا۔ت المِدَّةُ فی الجرح: زخم میں پیپ کا جمع ہونا، کہاجاتا ہے: قَرَیتُ فی شدقی جوزةً: میں نے اپنے جبڑے میں اخروٹ کو چھپایا۔اَقرٰی اِقراءً: گاؤں میں رہنا، کسی شئی سے لازم رہنا اور اس پر اصرار کرنا۔القارِیُ (فا): دیہاتی کہاجاتا ہے جاءنی کل قارٍ وبادٍ: میرے پاس ہر ایک دیہاتی اور بادیہ نشین آیا۔القارِیَة: ج قَوارٍ مونث القاری کا: لوگوں سے بھری ہوئی جگہ۔القاراةُ ج قارِیات: لوگوں سے بھرا ہوا مکان۔القَرِیُّ: پانی جو حوض میں جمع کیا گیا ہو۔القَریةُ والقِریةُ ج قُرًی و قِرًی اور نسبت قَرَوِیٌّ و قَرَیِیٌّ: جائیداد، لوگوں کی جماعت، گاؤں۔— قریة النمل: چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ۔قَریة الانصار: مدینہ طیبہ یعنی یثرب۔القَریَتان: مکہ معظمہ اور طائف۔القَریَّةُ ج قَرایا: چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ۔المَقرٰی والمَقراةُ: ہر وہ جگہ جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔
۳۔قَرٰی — قَرْیًا و قَرَیًا الجرحُ: زخم کا بہنا۔— وتَقَرّٰی واِستَقرَی البلادَ: کا سراغ لگانا میں چکر لگانا۔اقتری البلادَ: کا سراغ لگانا اور اس میں گھومنا پھرنا۔— فلانا بقوله: کا کھوج لگانا۔القَرِیُّ ج اَقرِیة و اَقراءٌ و قُریانٌ: ٹیلے سے باغ کی طرف بہنے والی نالی، نالی کہاجاتا ہے جری الوادی فطمَّ القَرِیَّ: وادی بہہ پڑی نالیاں بھر گئیں۔یہ مثال کسی بہت بڑے حادثے کے رونما ہونے پر دی جاتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے واقعات ومصائب چھپ ہو جاتے ہیں جس طرح کہ نہر کا پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں پر چھا جاتا ہے۔
۴۔القارِیَةُ ج قَوارٍ: تلوار کی دھار، نیزہ کا نچلا یا اوپر والا حصہ۔والقارِیَةُ ج قَوارٍ وقَوارِیٌّ (ح): ایک پرندہ جس کی ٹانگیں چھوٹی اور چونچ لمبی اور پیٹھ سبز ہوتی ہے، کہاجاتا ہے۔هم قواری الله: وہ اللہ کے امین اور شہداء ہیں۔القَرِیُّ ج اَقرِیة و اَقراءٌ و قُریانٌ: جما ہوا دودھ۔القَرِیَّةُ ج قَرایا: لاٹھی، بادبان کے اوپر کی لکڑی جو عرض میں لگائی جاتی ہے۔
المِقرایَةُ: پڑھائی کے وقت صلاۃ کی کتابیں رکھنے والی پٹی۔
○ قَرٰی — قِرًی ۵: کی مہمان نوازی کرنا، خاطر مدارات کرنا۔اِقرٰی: بمعنی بالا۔قِرًی: مہمان نوازانہ استقبال، مہمان نوازی۔قریة جمع قُرًی: گاؤں، ڈھوک، دہ، چھوٹا گاؤں، قصبہ، دیہاتی لوگ۔
القریتان: مکہ و طائف، مکہ و مدینہ۔ام القُرٰی: مکہ۔قَرَوِی: دیہاتی، گاؤں کا، دہقانی، گنوار جمع قَرَوِیُون: دیہاتی، قروان کا باشندہ، فیض (مراکش) میں القروبة کالج کا رکن۔جامع القرویین: مراکش کے شہر فیض میں جامع مسجد اور کالج۔وزارةُ الشئون البلدیة والقرویة: بلدیاتی اور دیہاتی امور کی وزارت۔قَرَوِیَة: دیہاتی عورت، کسان عورت۔قِریة جمع قِرایة گز (بحری)۔مِقرِیّ: بہت مہمان نواز۔مقراء: بہت مہمان نواز۔قارٍ: دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا۔قُرَیدِس: ایک قسم کا جھینگا۔
قز: ا۔قَزَّ — قَزًّا: کودنے کے لئے سمٹنا، کودنا۔القازُّ (فا): شیطان۔القَزازُ (ح): بہت بڑا سانپ، اژدہا۔
۲۔قَزَّ — قَزًّا ت نفسی الشیئَ وعن الشیئ: سے نفرت کرنا، انکار کرنا۔قَزَّزَ قَزًّا و تَقَزَّزَ س الدنس و کل مایُستقذر و یُستخبث: کو مکروہ جاننا، سے پرہیز کرنا، بچنا۔القَزُّ و القِزُّ و القَزَزُ والقُزازُ: گندگی، کہاجاتا ہے۔مافی طعامه قَزُولا قَزُولا قزازة: اس کے کھانے میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے پرہیز کیا جائے اور اسے مکروہ سمجھا جائے۔
۳۔القازُوزَةُ: چھوٹی شیشی، طشت۔القَزُّ ج قُزُوزٌ: ریشم خام ریشم (فارسیہ)۔دُودُ القَزِّ (ح): ریشم کا کیڑا۔القَزّازُ: ریشم بیچنے والا۔— عند العامة: ریشم کے کیڑے کی تربیت کا ماہر۔القُزَیزَةُ (ن): بلور کی جڑی بوٹی (عامیہ)۔
○ قَزَّ — قَزًّا/ ۵/ عن: سے بے حد نفرت کرنا، کراہت کرنا۔قَزَّزَ ۵: کو کانچ میں تبدیل کرنا، پر شیشہ لگانا یا جڑنا، کو صقیل کرکے چمکا دینا۔تقزّز من/ عن: سے بے حد نفرت کرنا، کراہت کرنا، کو ناپسند کرنا، سے طبیعت مالش کرنا، قے آنا، متلی ہونا، سے بیزاری محسوس کرنا۔قَزّ جمع قُزُوز: ریشم، خام ریشم۔قِزاز: کانچ۔قَزّاز: ریشمی کپڑے کا تاجر۔قِزازة جمع قِزازات و قَزائز: بوتل۔قازُوزة: سوڈا واٹر۔تقزز: نفرت، بیزاری، کراہت، تنفر۔قَزان جمع قزانات: کیتلی، بڑی دیگ۔
قزح: ا۔قَزَحَ — قَزحًا القدرَ: ہانڈی میں مسالہ ڈالنا۔قَزَّحَ القدرَ: ہانڈی میں مسالہ ڈالنا۔— الحدیثَ: کو مزین کرنا، بغیر جھوٹ بولے ہوئے پورا کرنا۔
القِزحُ: مسالہ۔القِزحُ ج اَقزاحٌ: مسالہ۔
القَزّاحُ: مسالہ بیچنے والا۔التقازِیحُ: مسالے۔
المِقزَحَةُ: مسالہ کا برتن، مسالہ دان۔

۲۔ قَزَحَ ـَـ قَزْحًا الشیئُ: بلند ہونا۔ قَزَحَ قَزْحًا و قَزَحَانًا ت القِدْرُ: ابلنا۔ سِعرٌ قارِحٌ مونث قارِحَةٌ ج قَوارِحُ: مہنگا بھاؤ۔ قَوازِحُ الماءِ: پانی کے بلبلے۔ قَوسُ قُزَحَ و قَوسُ قُزَحٍ: دھنک، وہ شکل جو بادل میں مختلف رنگوں کی کمان کے مانند دکھائی دیتی ہے۔ قُزَحُ منصرف ہے کیونکہ یہ قُزْحَةٌ کی جمع ہے اور علم معدول کی تقدیر پر غیر منصرف ہے اور قزح کو اس سے جدا استعمال نہیں کرتے (لاتاکل قزح سالئیر قوسه) نہیں کہا جائیگا اور بقول بعض قزح ایک فرشتہ ہے جسے بادلوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور بقول بعض شیطان یا افسانوی معبود۔ عام لوگ اسے قوس القدح کہتے ہیں۔ القُزْحَة ج قُزَحٌ قوس قزح کے رنگ کی ایک دھاری۔

۳۔ قَزَّحَ الشجرَ: بڑھنے کے لئے درخت کی جڑ میں پیشاب ڈالنا۔ القَزْحُ (مص) کتے کا پیشاب۔ تَقَزَّحَ النباتُ او الشجرُ: زیادہ شاخدار ہونا۔

۴۔ القِزْحُ ج اَقْزاحٌ (ز): پیاز کے بیج، سانپ کی بیٹ۔

○ قَزَّحَ ۃ (اپنی تقریر) کو چٹپٹا بنانا۔ قُزَحِيَةٌ: آنکھ کی پتلی کی جھلی۔

قزع ۱۔ قَزَعَ ـَـ قُزُوعًا: دیر کرنا۔ الظَّبْیُ: ہرن کا دوڑنا۔ بھاگنے میں چست ہونا۔ قَزَّعَ الفرسَ: گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لئے آمادہ کرنا۔ تیز دوڑنا۔ الرسولَ بہ: کی طرف قاصد بھیجنا۔ — واَقْزَعَ ہُ للامر: کو کے لئے فارغ کر دینا اور دوسرے کام میں مشغول نہ کرنا۔ تَقَزَّعَ الفرسُ: دوڑنے کے لئے تیار ہونا۔ المُقَزَّعُ: ہلکا پھلکا تیز، بشارت کے لئے مخصوص کیا ہوا خوش خبری دینے والا۔

۲۔ قَزَّعَ الشاربَ: مونچھ کاٹنا۔ راسَهُ: کا سر مونڈنا اور کچھ ادھر ادھر چھوڑ دینا۔ تَقَزَّعَ الراسُ: متفرق جگہ سے سر کا مونڈا جانا۔ — القومُ: قوم کا متفرق ہونا۔ — السحابُ: بادل کھل جانا۔ القَزَعُ واحد قَزَعَةٌ: کچھ بالوں کو کچھ مونڈنا اور کچھ کو چھوڑ دینا، ہر چیز جس کے متفرق ٹکڑے ہوں، بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ بچے کے سر کے کچھ بال مونڈنا اور کچھ چھوڑ دینا، وادی کا کوڑا کرکٹ، چھوٹے اونٹ۔ قَزَعُ السہمِ: تیر کے پر کا پتلا حصہ۔ القَزَعَةُ: سر میں متفرق کٹے ہوئے بال، بادل کا ٹکڑا، کہا جاتا ہے ما عِندَهُ قَزَعَةٌ یعنی اس کے پاس کچھ کپڑا نہیں۔ القِزاعُ: چیتھڑے کا ٹکڑا، کہا جاتا ہے مافی السماءِ قِزاعٌ: یعنی آسمان میں تھوڑا سا بھی بادل نہیں۔ المُقَزَّعَةُ. القُرَيْعَةُ. بالوں کا گچھا جو بچے کے سر پر چھوڑ دیا جائے، سر کے درمیان میں تھوڑے سے بال۔ الاَقْزَعُ من الکباش: مینڈھا جس کے بال موسم بہار میں کہیں سے گر گئے ہوں کہیں سے باقی رہ گئے ہوں۔ المُقَزَّعُ: وہ شخص جس کے سر پر کچھ ادھر ادھر تھوڑے سے بال ہوں۔ من الخیل: پیشانی پر کم بالوں والا گھوڑا۔ رَجُلٌ مُقَزَّعٌ: وہ شخص جس کا مال برباد ہو جائے صرف چھوٹے اونٹ رہ جائیں۔

۳۔ اَقْزَعَ لَهُ فی القول: کو سخت سست کہنا۔

۴۔ القَزَعَةُ: حرامی، ولدالزناء۔

قزل: قَزَلَ ـِـ قَزْلًا و قَزَلانًا: کودنا، لنگڑے کی چال چلنا۔ قَزِلَ ـَ قَزَلًا: لنگڑا ہونا صفت اَقْزَلُ۔ القَزَلُ: بدترین لنگڑاہٹ

○ قُنزُع واحد قُنزُعَة: ہوا سے پھٹے ہوئے بادل، ڈھکیلی بوچھاڑ، بالوں کا گچھا۔ قُنزُعَة: بونا، ٹھگنا، ناٹا، پست قد، بالشتیا قُنَيزِعة: بالوں کا گچھا۔

○ قَزْقَزَ ہ (اخروٹ وغیرہ) توڑنا۔

○ قَزَل: لنگڑاہٹ، لنگڑا کر چلنا۔

قزم ۱۔ قَزَمَ ـِ قَزْمًا: پر عیب لگانا۔ قَزِمَ ـَ قَزَمًا: کمینہ ہونا، لئیم ہونا۔ القَزِمُ مونث قَزِمَةٌ: لئیم اور ردی مرد القَزَمُ (مص): کمینگی، کنجوسی، ردی مال، حقیر لوگ (واحد جمع مذکر و مونث کیونکہ یہ مصدر ہے) کہا جاتا ہے هولاء قوم قَزَمٌ ما فیهم کَرَمٌ: یہ لوگ کمینے ہیں ان میں کرم نہیں اور کبھی تثنیہ اور جمع اور مونث استعمال کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے رَجُلٌ قَزَمٌ رجلان قَزَمان وامراةٌ قَزَمَةٌ ورجالٌ قُزُمٌ واَقْزامٌ و قَزامی و نساءٌ قَزَماتٌ — مونث قَزَمَةٌ والقَزَمُ مونث قَزَمَةٌ: کمینہ اور لئیم مرد۔ — ج قُزُمٌ واَقْزامٌ: چھوٹے جسم والا کمینہ بے خیر کہا جاتا ہے رجل قَزَمَةٌ وامراۃ قَزَمَةٌ: چھوٹے جسم کا مرد چھوٹے جسم کی عورت مذکر و مونث دونوں کے لئے۔ القُزُمُ مونث قُزُمَةٌ: لئیم اور کمینہ مرد۔ القُزّامُ: لئیم لوگ۔

۲۔ تَقَزَّمَ: کاموں میں زبردستی داخل ہونا۔ القُزامُ: جس پر کوئی غالب نہ آئے، جلدی کی موت۔

۳۔ سُودَدٌ اَقْزَمُ: سرداری جو خاندانی نہ ہو۔

۴۔ القَزْمَلُ: کوتاہ قامت، بدصورت۔

○ قَزَم جمع اقزام: بونا، ٹھگنا، ناٹا، پست قد، بالشتیا، لٹی پٹ کا بونا ٹھگنا آدمی۔ قُزمُوغرافیا: کائنات نگاری قزمواغرافی: کائنات نگاری کا یا سے متعلق۔ بحر قَزْوِین: بحر کیسپین۔

قزو: قَزا ـُ قَزْوًا الارضَ بعصاہُ: زمین کو لاٹھی سے کریدنا۔ — الرجلُ عیب سے دور رہنا، قَزَة (ایک کھیل) کھیلنا۔ اَقْزیٰ: بے عیبی کے بعد عیب دار ہونا۔ القُزَةُ ج قُزاتٌ: عربوں کا ایک کھیل، (ح) سانپ

قزی: قَزیٰ الرجلَ: کو پچھاڑنا اور قتل کرنا۔

القِزَنیُّ: لقب، کہا جاتا ہے بِئْسَ القِزَنیُّ هذا: یہ برا لقب ہے۔

قس: قَسَّ ـُ قَسًّا و قِسًّا و قُسًّا: چغل خوری کرنا۔ — القومَ: کو برے کلام سے تکلیف پہنچانا۔ قَسَّ قَسًّا و تَقَسَّسَ الشیئَ: کو طلب کرنا اور ڈھونڈنا۔ کہا جاتا ہے تَقَسَّسَ اصواتهم باللیل: اس نے رات میں ان کی آواز پر کان لگایا۔ القَسّاسُ: چغل خور۔

۲۔ قَسَّ ـُ قُسُوسَةً و قِسِّیسَةً: پادری ہونا۔ القَسُّ ج قُسُوسٌ: پادری، کاہن (سریانیہ)۔ القِسِّیسُ ج قِسِّیسُونَ و قَسّانٌ و اَقِسَّةٌ و قَساوِسَةٌ: پادری۔ القُسُوسَةُ والقِسِّیسِیَّةُ: پادری کا درجہ یا حالت۔

۳۔ قَسَّ ـُ قَسًّا ما علی العظمِ: ہڈی پر کا گوشت کھانا اور گودا نکالنا۔ اِقْتَسَّ الاسدُ: شیر کا خوراک تلاش کرنا۔

۴۔ قَسَّ ـُ قَسًّا و قَسَّسَ الابلَ: اونٹوں کو اچھی طرح چرانا۔ اِقْتَسَّ ـ ت الناقةُ: اونٹنی کا تنہا چرنا۔ القَسُّ: اونٹوں کا مالک جو ان سے جدا نہ ہو۔

۵۔ قَسَّ ـُ قَسًّا السیرَ: تیز چلنا۔ القُسُسُ: ماہر ہانکنے والا۔

۶۔ القَسُّ: پالا القُسُسُ: عقلاء۔ القُسّاسُ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ، آرمینیہ میں ایک پہاڑ جس میں لوہے کی کان ہے اور اس سے ہے السیوف القساسیة۔ القَسَّةُ: چھوٹی بستی، چھوٹی مشک۔ القَسُّوسُ (ن): عشق پیچاں۔ القَسِّیُّ من الدراهم: ردی دراہم۔

○ قَسَّ ـُ قَسًّا ہ: کا تعاقب کرنا، کھوج لگانا، کی سخت کوشش کرنا، کی آرزو کرنا۔ قَسٌ و قِسٌ جمع قُسُوس و قُسُس: پادری، دوسرے درجے کا پادری، پادری کا مددگار۔ قَسٌّ: (بمعنی قص) سینے کی ہڈی، قَسّاس: بہتان لگانے والا، غیبت کرنے والا۔ قِسِّیس جمع قسیسون و قَساوِسة و قُسّان و اَقِسّة بمعنی قَس و قِس۔ قُسُوسة: کلیسا کے عہدہ دار، پادری کا عہدہ یا کردار، پادری کا منصب۔ رِسامَةٌ قُسُوسِیة: پادریوں کا تقرر۔

قسب ۱۔ قَسَبَ ـِـ قَسْبًا الماءُ: پانی جاری ہونا۔ قَسِیبُ الماءِ: پانی کا بہاؤ آواز کے ساتھ۔

۲۔ قَسَبَ ـِ قَسْبات الشمسُ: آفتاب غروب ہونے لگنا۔

۳۔ قَسَبَ ـُ قُسُوبًا و قُسُوبَةً الشیئُ: سخت ہونا۔

القَسْبُ واحد قَسْبَةٌ: بہت سخت ــ والقَسِيْبُ: ہرایک لمبی اور مضبوط چیز۔

۴۔ القَسْبُ واحد قَسْبَةٌ: خشک کھجور جو منہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے۔ القُسَابَةُ: ردی قسم کی کھجور۔ القَسُوْبُ: چمڑے کا موزہ۔

قسح: قَسَحَ ـَ قَسَاحَةً و قُسُوْحَةً: سخت ہونا۔ ــ الحبل: رسی بٹنا۔ قاسح ہٗ: سے سختی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ القَاسِحُ والقُسَاحُ والمَقْسُوْحُ: سخت اور موٹا، کہا جاتا ہے۔ ثوبٌ قاسِحٌ: موٹا کپڑا اور رمحٌ قاسح: ٹھوس مضبوط نیزہ۔

قسر: ا۔ قَسَرَ ـِ قَسْرًا و اِقْتَسَرَهٗ علی الامر: کو پر مجبور کرنا۔

۲۔ قَسْوَرَ الرجلُ: عمر رسیدہ ہونا۔ النبتُ: بکثرت ہونا۔ القَسْوَرُ ج قَسَاوِرُ و قَسَاوِرَةٌ: غالب، (۲) شیر، بہادر قوی لڑکا۔ القَسْوَرَةُ ج قَسَاوِرُ و قَسَاوِرَةٌ بمعنی القَسْوَرُ۔ ج قَسْوَرٌ: رات کا بڑا حصہ، ایک میدانی نباتات۔

ت قَسَرَ ـِ قَسْرًا ہٗ علی: کو پر مجبور کرنا۔ ہٗ/ھ: کو فتح کرنا، محکوم بنانا، مغلوب کرنا، تسخیر کرنا، مطیع کرنا، زیر کرنا۔ اِقْتَسَرَ: بمعنی بالا۔ قَسر: زبردستی، مجبوری، دباؤ، جبر، پابندی۔ قَسْرًا: بذریعہ طاقت، بزور، جبراً، لازماً، لازمی طور، چار و ناچار، ناگزیر طور پر، زبردستی سے۔ اِقتسار: فتح، تسخیر، تغلب، محکومی۔

قسط: ا۔ قَسَطَ ـُ قِسْطًا و اَقْسَطَ الوالی: منصف ہونا، کہا جاتا ہے اَقْسَطَ فی حکمہ واقسط بینھم والیھم: اس نے فیصلہ میں انصاف کیا۔ ان کے درمیان انصاف کیا۔ قَسَّطَ الشیئَ: کو جدا جدا کرنا۔ ــ الاغراس: پودوں کے درمیان برابر فاصلہ کرنا۔ ــ الدَّیْنَ: قرض کی قسطیں مقرر کردینا کہا جاتا ہے قَسَّطَ الخراجَ علیھم والمالَ بینھم: یعنی خراج کی ان کے اوپر قسطیں مقرر کردیں اور مال ان کے درمیان تقسیم کردیا۔ تَقَسَّطَ القومُ الشیئَ بینھم: کو کے درمیان برابر تقسیم کرنا۔ اقتسطوا المالَ بینھم: کو کے درمیان تقسیم کرنا۔ القِسْط ج اَقْسَاط: انصاف (کہا جاتا ہے۔ ھو او ھم قِسْطٌ: یعنی وہ عادل ہے یا وہ عادل ہیں) حصہ، مقدار، میزان، ترازو، پیمانہ نصف صاع کا، روزی، قسط (مقرر کئے ہوئے قرض کا ایک حصہ۔) القَسْطان: غبار۔ المُقْسِط: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ہے اس کے معنی عادل کے ہیں۔

۲۔ قَسَطَ ـِ قَسْطًا و قُسُوْطًا: ظلم کرنا، حق سے ہٹ جانا صفت قاسط ج قُسَّاطٌ و قَاسِطُوْنَ۔ رجلٌ قَسْطَاء: ٹیڑھا پیر۔

۳۔ قَسِطَ ـَ قَسَطًا ت العُنُقُ: گردن کا خشک ہونا۔ ت الدابَّةُ: سیدھی ٹانگوں والا ہونا۔ قَسِطَ قُسُوْطًا ت العظامُ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا خشک ہونا۔ اَقْسَطَ ت الریحُ العیدانَ: ہوا کا لکڑیوں کو خشک کر دینا، کہا جاتا ہے۔ ھو قُسْطُ الرِجْلِ و قَسِطُھا: اس کے پاؤں سخت اور سیدھے ہیں چلنے میں مڑتے نہیں۔ القَسْطُ (مص): اعضاء کی سختی یا خشکی۔ الاَقْسَط مونث قَسْطَاءُ ج قُسْطٌ: خشک شدہ گردن والا، سخت اور خشک اعضاء والا العُنُقُ قَسْطَاءُ: خشک گردن۔ رُکْبَةٌ قسطاء: خشک زانوں جو سکڑ سمٹ نہ سکے۔

۴۔ قَسَّطَ علی عیاله: اہل و عیال پر تنگی کرنا۔

۵۔ القُسْطُ: عود ہندی۔ القُسْطَانُ والقُسْطَانَةُ والقُسْطَانِيُّ والقُسْطَانِيَّةُ: قوس قزح، دھنک۔

۶۔ قَسْطَرَ الدراهمَ: دراہم کو پرکھنا۔ القَسْطَرُ والقَسْطَارُ: دانا مرد۔ القَسْطَرِيُّ ج قَسَاطِرَةٌ: دراہم کو پرکھنے والا، دانا و دوربین نگاہ مرد، بڑے ڈیل ڈول کا۔

۷۔ القُسْطَاسُ والقِسْطَاسُ: ترازو۔

۸۔ القَسْطَلُ ج قَسَاطِلُ: میدان جنگ کا گرد و غبار، لوہے وغیرہ کی نالی جس میں پانی بہتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قسطر و قساطِر ہے (ن)۔ شاہ بلوط یا اس کی لکڑی اُمُّ قَسْطَلٍ: مصیبت، موت۔ قَسَاطِلُ الخَیْلِ: گھوڑوں کی آوازیں۔ القَسْطَلَةُ: اونٹ کی بڑبڑاہٹ۔

قَسْطَلَةُ الماءِ: پانی بہنے کی آواز۔ قَسْطَلَةُ الحصان (ن) بمعنی کستنة الحصان۔ القَسْطَالُ والقُسْطُوْلُ ج قَسَاطِلُ: میدان جنگ کا گروہ غبار۔ نَهرٌ قَسْطَالٌ: بہنے میں شور کرنے والا دریا۔ القَسْطَلَانُ ج قَسَاطِلُ: میدان جنگ کا گرد و غبار۔ القَسْطَلَانِيُّ: قوس قزح، دھنک۔ القَسْطَلَانِيَّةُ: شفق کی سرخی، غبار کی کثرت، قوس قزح

ت قَسَّطَ ھ: قسطوں میں ادا کرنا، کو تقسیم کرنا۔ اَقْسَطَ: انصاف کرنا۔ قِسط: انصاف، عدل، معقولیت، درستی، صحت، صداقت، (واحد و جمع) صحیح، عادلانہ، منصفانہ، منصف مزاج، سچا، صحیح، درست، جمع اَقساط: حصہ، جز، تقسیم، حصہ مقررہ، قسط، مقدار، کمیت، اندازہ، ناپ تول، حد۔ علی اقساط: قسطوں میں، بتدریج کان علی قسط کبیر من: بڑی حد تک خصوصیت وغیرہ کا مالک ہونا، کافی کچھ رکھنا۔ قسط: جوزی کی تحقق۔ اَقْسَط: زیادہ عادلانہ، زیادہ منصفانہ، صحیح تر۔ تقسیط: قسطوں میں ادائیگی، بالتقسیط: قسطوں میں بتدریج۔ مُقْسِط: منصف، عادل، عادلانہ، عدل کار، منصفانہ۔ قَسْطَرَ ھ: سکوں کا کھرا پن جانچنا۔ قُسطاس و قِسطاس جمع قساطیس: ترازو، میزان۔ قَسطَل جمع قَساطِل: پانی کا نل، آب رسانی کا بڑا نل۔ بلاد القساطلة: ہسپانیہ۔ القُسْطُنْطِیْنِیَّة: ترکی کے ایک شہر کا نام

قسم: ا۔ قَسَمَ ـِ قَسْمًا الشیئَ: کا تجزیہ کرنا۔ الدھرُ القومَ: کو متفرق کرنا عددًا علی آخر: کسی عدد کو دوسرے پر تقسیم کرنا جیسے 195 کو 13 پر (یا سے) تقسیم کیا جائے تو 195 مقسوم اور 13 مقسوم علیہ ہوگا اور جواب 15 حاصل قسمت کہلائے گا۔ قَسُمَ ـُ قَسَامَةً الغلامُ: لڑکے کا خوبصورت ہونا۔ قَسَّمَ الشیئَ: کو جزء جزء کرنا۔ متفرق کرنا۔ (کہا جاتا ہے قَسَّمَ الدھرُ القومَ: زمانے نے قوم کو متفرق کردیا) کو خوبصورت بنانا۔ قَاسَمَهُ المالَ: مال میں سے اپنے اپنے حصہ کو لینا۔ تَقَسَّمَ الشیئَ: جدا جدا کرنا۔ ــ الشیئُ: جدا جدا ہونا کہا جاتا ہے تقسمتهُ الهمومُ: یعنی غموں نے اسے پریشان خاطر کردیا۔ تَقَاسَمَ و اِقْتَسَمَ القومُ المالَ: آپس میں مال تقسیم کرنا۔ اِنْقَسَمَ: تقسیم ہونا۔ اِسْتَقْسَمَ: تقسیم کرنے کو کہنا۔ قاسم او عاد عددٍ صحیح: وہ عدد جو پورا پورا تقسیم ہوجائے۔ القاسم الاکبر لعدد ما: نسبت نما (ریاضی) القاسم المشترک بین عدة اعداد: ایسا مشترک عدد جو سب پر تقسیم ہو جائے۔ القِسْمُ (مص) عطیہ، ہانڈی۔ حصاةُ القَسْمِ: پانی تقسیم کرنے کی کنکری اور یہ اس طرح پر کہ سفر کی حالت میں جب پانی کی کمی ہوتی تھی تو ایک برتن میں کنکری ڈالتے تھے اتنا کہ کنکری چھپ جائے پھر ایک آدمی کو پینے کے لئے دیتے تھے پھر اسی طرح کرتے تھے یہ اس لئے تاکہ سب کو پانی برابر پہنچ جائے اور کسی کو شکایت نہ رہے۔ القِسْمُ ج اَقْسَامٌ جمع اَقَاسِیْمُ: تقسیم شدہ چیز کا حصہ، خیر کا حصہ۔ القِسْمَةُ ج قِسَمٌ: اقسام (یعنی تقسیم) حصہ۔ قِسْمَةٌ: کی دو قسمیں ہیں۔ ا۔ توافقیہ (ع ح) ۲۔ لاتوافقیہ صحیح تقسیم غیر صحیح تقسیم۔ القَسَمَةُ ج قَسَمَاتٌ اور القَسِمَةُ ج قَسِمَاتٌ: چہرہ، خوبصورتی۔ القَسَامُ والقَسَامَةُ: خوبصورتی۔ القُسَامَةُ: تقسیم کرنے والا جس کو اپنے لئے خاص کرلے۔ صدقہ کا مال۔ القَسَامِيُّ: دو چیزوں کے درمیان کی چیز، پہلی تہہ پر

کپڑے کو لپیٹنے والا۔ القَسَّامُ: قاسم کا مبالغہ۔ المَقسِمُ ج اَقسِمَاءُ: حصہ، تقسیم شدہ چیز کا نصف، تقسیم کرنے والا۔ خوبصورت القَسِیْمَةُ ج قَسَائم: القسیم کا مونث۔ خوبصورت چہرہ الاُقسُومَةُ ج اَقَاسِیمُ: حصہ۔ المُقسَمُ والمِقسَمُ ج مَقَاسِمُ: حصہ۔ المَقسِمُ ج مَقَاسِمُ: تقسیم۔ تقسیم کرنیکی جگہ۔ صاحبُ المَقَاسِم: نائب امیر اور وہ اموال غنیمت کا تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔ المُقَسَّمُ: خوبصورت۔ رجُلٌ مُقَسَّمُ الوجه: مکمل خوبصورت ومتناسب جسم والا شیئٌ مُقَسَّمٌ: خوبصورت بنائی ہوئی چیز۔

۲۔ قَسَمَ ۔ قَسْمًا فلانٌ امرَهُ: کا اندازہ کرنا، پر غور کرنا تقَسَّمَ فلانٌ فکر کرنا، سوچنا۔ اِستَقسَمَ: فکر کرنا، سوچنا۔ القَسَمُ: رائے، شک گمان پیدا ہونا پھر قوت پا کر یقین ہو جانا۔ المُقَسَّمُ: (مفع) غمگین۔

۳۔ قَاسَمَهُ علی کذا: کو پر قسم کھلانا۔ اَقسَمَ باللّٰه: اللہ کے نام پر حلف اٹھانا، اللہ کی قسم کھانا۔ تَقَاسَمَ القومُ: آپس میں قسم کھانا۔ اِستَقسَمَهُ باللّٰه: سے اللہ کی سقم کھانے کو کہنا۔ القَسَمُ ج اَقسَامٌ: اللہ تعالیٰ یا غیر اللہ کی قسم۔ القَسَامَةُ: جماعت جو کسی چیز کے لئے قسم کھائے اور لے لے، قسم جو اولیاء مقتول کو دی جائے (کہا جاتا ہے حکم القاضی بالقسامة: قاضی نے قسامت کا فیصلہ کیا قسم پر فیصلہ کیا اور قَسَامَةٌ اَقسَمَ کا اسم ہے جو مصدر کی جگہ پر استعمال ہوا ہے) صلح۔ التَقسِیمُ ج تقاسِیمُ، علی المحسون عندالنصاری: کاہن کی صلوات جسے وہ شیطان کو پاگل سے بھگانے کے لئے پڑھتا ہے۔ المُقسَمُ: قسم۔

۴۔ القَسْمُ: اخلاق، عادت، بارش، پانی۔ القَسِمُ والقَسَمَةُ ج قَسَمَاتٌ: والقَسِمَةُ ج قَسِمَاتٌ: عطر فروش کا ڈبہ۔ القَسَام: گرمی کی شدت۔ القَسِیمَةُ ج قَسَائِمُ: عطر فروش کا ڈبہ، بازار۔

○ قَسَمَ ۔ قِسمًا ہ: کو تقسیم کرنا، جدا کرنا، ٹکڑیوں میں بانٹنا۔ ۔ ہ علی: کو کے درمیان تقسیم کرنا۔ ۔ ل فی: کو کا کچھ حصہ دینا، کو کچھ الاٹ کرنا۔ ۔ ہ الی: کو میں تقسیم کرنا، کو میں ترتیب دینا، درجہ بندی کرنا، ۔ ل / علی ہ: اللہ یا قسمت کا کسی کو کچھ تفویض کرنا۔ ۔ ہ علی: عدد کو دوسرے عدد سے تقسیم کرنا۔ قَسَّمَ ہ: کو تقسیم کرنا، جدا کرنا، ٹکڑیوں میں بانٹنا۔ ۔ ہ بین: کو کے درمیان تقسیم کرنا۔ ۔ ہ ہ / الی: کے میں حصے کرنا۔ ۔ ہ: کو ابواب یا دفعات میں تقسیم کرنا۔ ۔ ہ / الی: کو میں ترتیب دینا، کی میں درجہ بندی کرنا۔ ہ: کو حصوں میں تقسیم کرنا۔ ۔ ہ: کو نیاز چڑھانا، دینی کام کے لئے وقف کرنا (مسیحیت میں)۔ ۔ علی: سے جھاڑ پھونک کر کے آسیب اتارنا۔ قَاسَمَہ ہ: کے ساتھ کا حصہ پانا۔ ۔ ہ علی: حلف کے ساتھ خود کو کسی کا یا کچھ کرنے کا پابند کرنا۔ اَقسَمَ ب: کی قسم کھانا۔ ۔ ل علی: سے کا عہد کرنا۔ ۔ علی اَن: کچھ کرنے کی قسم کھانا، کچھ کرنے کا عہد کرنا۔ اقسم علیه اِلَّا فَعَلَهُ: سے کچھ کرنے کی قسم لینا، سے کچھ کرنے کی التجا کرنا۔ اقسموا جَهْدَ اَیْمَانِهِمْ: انہوں نے ہر جائز اور مقدس چیز کی قسم کھائی، انتہائی، سنجیدہ قسم کھائی۔ اقسم بمُقَدَّسَاتِهِ: اس نے ہر مقدس چیز کی قسم کھائی۔ تَقَسَّمَ: منقسم ہونا، جدا ہونا، ٹکڑیوں میں بٹنا، تقسیم ہونا، بٹنا، حصے بخرے ہونا۔ ۔ ہ ہ: کو اپنے درمیان تقسیم کرنا۔ ۔ ہ: کو بکھیرنا، تتر بتر کرنا، منتشر کرنا، دور کرنا۔ ۔ ہ: کو المناک طور پر گھیر لینا۔ کو مشترکہ طور پر دق کرنا، ستانا، پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا۔ تَقَسَّمُوہ ضربًا و جیعًا: انہوں نے اس کی سخت پٹائی کی، انہوں نے باری باری اسے تکلیف دہ گھونسے اور مکے مارے۔ تَقَاسَمَ ہ: کو آپس میں تقسیم کرنا۔ ۔ ہ۔ (خیالات، پریشانیوں وغیرہ کا) کسی کو گھیر لینا، پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا۔ اِنقَسَمَ: تقسیم ہونا، جدا ہونا، ٹکڑیوں میں بٹنا، منتشر ہونا، علیحدہ ہونا، الگ ہونا۔ الی: میں تقسیم ہونا، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہونا، حصے ہونا۔ اِقتَسَمَ ہ: کو آپس میں تقسیم کرنا، بانٹنا۔ اِستَقسَمَ: (دیوی، دیوتا، خدا) سے دانشمندانہ مشورہ دینے کی درخواست کرنا۔ قِسم جمع اَقسَام: مختص حصہ، تقسیم، درجہ، قسم، محکمہ، شعبہ، گروہ، جماعت، ضلع، نواح، پولیس سٹیشن۔ محافظہ کا انتظامی ذیلی دفتر، ذیلی کمیٹی، نوع، قسم، نمونہ، صنف، فرع قِسمَة: تقسیم کرنا، تقسیم، درجہ بندی، حصہ، مقررہ حصہ، تقسیم حصص، بٹائی، حصہ داری۔ ۔ علی: پر تقسیم (ریاضیات) جمع قِسَم: حصہ، مقدر، نصیب، تقدیر (اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ٹھہرائی ہوئی) قَسَم جمع اقسام: قسم، حلف۔ قَسَمًا: میں قسم کھاتا ہوں۔ قَسَمًا ب: میں کی قسم کھاتا ہوں۔ قَسَمات و قَسِمَات: (چہرے کے) خدوخال۔ قَسَام و قَسَامَة: حسن، حسن و جمال، خوش پوشی۔ قَسِیم جمع قُسَمَاء و اَقسِمَاء: حصہ دار، شریک، شریک کار، سانجھی، ساجھی، شرکت کرنے والا (جمع اَقسِمَاء) حصہ، ہمزاد، نقل، مثنی تصویر (Counterpart) قسیمة جمع قَسَائِم: کوپن (Coupon)، رسید تَقَاسِیم: ساخت، کاٹھی، طول و عرض وغیرہ (انسانی جسم کا) ایک کی نغمہ سرائی قَاسِم: قاسم، نسب نما۔ مقسوم علیه: مقسوم علیہ (ریاضی) مُقَاسِم: حصہ دار، شریک، سانجھی، شرکت کرنے والا۔ قُسَنطِینَة: شمال مشرقی الجزائر کے ایک شہر کا نام۔

قسن: اَقسَنَ الرجُلُ: سخت ہاتھوں والا ہونا۔ اِقسَأَنَّ اِقسِئنانًا و قُسَأنِینَةً العودُ: لکڑی کا خشک اور سخت ہونا۔ ۔ الرجُلُ: مرد کا بوڑھا ہونا اور خشک ہونا۔ ۔ فی العمل: کو کر گزرنا۔ اللیلُ: رات کا سخت تاریک ہونا۔ المُقسَئِنُّ: جوانی کی انتہا اور بڑھاپے کی ابتدا میں ہونے والا۔

قسو: ا۔ قَسَا ۔ قَسْوًا وقَسْوَةً وقَسَاوَةً وقَسَاءَةً: سخت و درشت ہونا صفت قَاسٍ ج قُسَاةٌ۔ اللیلُ: رات تاریک ہونا۔ قَسّٰی تَقسِیَةً واَقسٰی اِقسَاءً الشیئَ: کو سخت و درشت کرنا۔ قَاسٰی مُقَاسَاةً الالمَ: تکلیف برداشت کرنا۔ اَرضٌ قَاسِیَةٌ: بنجر زمین جس میں کچھ نہ اگے۔ لَیلَةٌ قَاسِیَةٌ: بہت تاریک رات۔ القَسِیُّ ج قِسیَانٌ: سخت، کہا جاتا ہے۔ عَشِیَّةٌ قَسِیَّةٌ: ٹھنڈی شام، ۔ یَومٌ اَو عَامٌ قَسِیٌّ: سخت دن یا سخت سال (گرمی، سردی یا قحط کی وجہ سے)۔ سِرنَا سَیرًا قَسِیًّا: ہم تیز چال چلے، کہا جاتا ہے۔ هُوَ اَقسٰی مِنَ الصَّخرِ: وہ پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ المَقسَاةُ: جو سخت بنا دے کہا جاتا ہے۔ اَلذَّنبُ مَقسَاةٌ لِلقَلبِ: گناہ دل کو سخت کرنے کا سبب ہے۔ گناہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔

۲۔ قَسَا ۔ قَسْوًا و قَسْوَةً وقَسَاوَةً و قَسَاءَةً الدرهمُ: درہم کھوٹا ہونا صفت قَسِیٌّ۔ القَسِیُّ من الدراهم ج قِسیَانٌ: کھوٹا درہم۔

○ قَسْو: سختی، بے رحمی، سنگدلی، تشدد، سخت گیری، کرختگی، قَسْوَة: بمعنی بالا۔ قَسَاوَة: ایضًا قَسِی: سخت، ٹھوس، مضبوط۔ اَقسٰی: زیادہ سخت، زیادہ بے رحم، زیادہ سنگدل، زیادہ سفاک، زیادہ ظالم، زیادہ وحشی، زیادہ مشکل، مُقَاسَاة: مصیبت اٹھانا، جھیلنا، تکلیف اٹھانا، گوارا کرنا، بھگتنا، برداشت کرنا، سہنا۔ قَاسٍ جمع قُسَاة: سخت، شدید، سنگدل، بے رحم، ظالم، بے درد، بے حس۔

قشّ: ا۔ قَشَّ ۔ قُشُوشًا: لاغری کے بعد تنومند ہونا۔ ۔ فلانٌ: لاغری کی چال چلنا۔ ۔ من مرضه: مرض سے صحت یاب ہونا۔ اَقَشَّ من المرض: مرض سے صحت یاب ہونا۔ القِشَّةُ: کولتار میں استعمال کے بعد

پھینکا ہوا چیتھڑا۔

۲۔ قَشَّ ـُ قَشًّا النباتُ: نباتات کا خشک ہونا۔ ــ الثوبُ الرطبُ وغیرہ عند العامَّۃ: تر کپڑے وغیرہ تھوڑے خشک ہونے لگنا۔ قَشَّشَ الکرسی عند المحدثین: کرسی کو بننا۔ اَقَشَّ ت الارضُ: زمین میں زیادہ خشکی ہونا۔ القَشُّ واحد القَشَّۃُ: چھوٹی اور باریک خشک نباتات، نرکل بید، بانس وغیرہ کے چھلکوں کے باریک تنکے جن سے کرسیاں بنی جاتی ہیں۔ المَقَشَّۃ بڑی بوتل جس کے گرد اور نیچے تنکوں سے بنا ہوا جال ہوتا ہے تاکہ وہ گرنے سے ٹوٹ نہ جائے۔

۳۔ قَشَّ ـُ قَشًّا الشیئَ: کو جمع کرنا۔ ــ فلانٌ صدقہ کے ٹکڑے کھانا، ادھر ادھر سے کھانا۔ عوام کہتے ہیں: قَشَّتِ المَرْاَۃُ الدارَ: عورت نے گھر کو جھاڑو سے صاف کیا۔ قَشَّتِ الفتاۃُ الطافی علی وجہ القدر: لڑکی نے ڈوئی سے جھاگ نکال دی قَشَّشَ: ادھر ادھر سے کھانا۔ الارض (ز): کے کانٹے اٹھا کر جگہ صاف کر دینا۔ تَقَشَّشَ واِقْتَشَّ ماوجد سب کچھ کھالینا۔ القَشُّ: مص گھر وغیرہ کا کوڑا کرکٹ، بڑا ڈول، ردی قسم کی کھجور۔ القُشَاش والقُشَاشیُ والقَشِیْشُ پڑی ہوئی جو چیز اٹھائی جائے۔ القَشَّاشُ: پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھانے والا۔ القَشَّانُ والقَشُوْشُ: جو معمولی چیز کو اٹھا کر کھالے۔ المِقَشَّۃُ جھاڑو۔

۴۔ قَشَّ ـُ قَشًّا الشیئَ: ہاتھ سے رگڑنا۔ القَشِیْشُ: سانپ کی کھال کی آواز۔

۵۔ قَشَّ ـَ قَشًّا واَقَشَّ القومُ چلا جانا۔ اِنْقَشَّ القومُ چلا جانا، جدا جدا ہونا۔

۶۔ قَشَّشَ ہٗ بکلامہ کو بدکلامی سے تکلیف پہنچانا۔

۷۔ القِشَّۃُ (ح): بندریا، بندریا کا مادہ بچہ، (ح) گبریلا کی مانند ایک کیڑا، چھوٹے جسم کی بچی۔

۸۔ قَشْقَشَ ہٗ من الجَرَب او الجدری: کو خارش یا چیچک سے صحت یاب کرنا۔ تَقَشْقَشَ: خارش یا چیچک سے تندرست ہو جانا۔ القَشْقَشَۃُ (مص): گوشت بھوننے کی آواز۔

قشب ۱۔ قَشَبَ ـِ قَشْبًا فلانًا السمَّ: کو زہر پلانا۔ ــ ہ الدخانُ: دھوئیں کا نتھنوں کو بھر دینا، کہا جاتا ہے قَشَبَنِیْ رِیْحُہٗ: اس کی بو نے مجھے تکلیف دی۔ ــ ہٗ المالُ: کی عقل زائل کرنا۔ ــ الشیئَ: کو خراب کرنا۔ ــ لہٗ: کو زہر پلانا۔ ــ الطعامَ بالسمِّ: کھانے میں زہر ملانا۔ قَشَّبَ الطعَامَ بالسمِّ: کھانے میں زہر ملانا۔ ـــ تِ الریحُ فلانًا: کو ہوا کا تکلیف دینا۔

القِشْبُ ج اَقْشَابٌ: زہر۔ القَشَبُ ج اَقْشَابٌ: زہر۔ المُقَشَّبُ: غیر خالص حَسَبٌ مُقَشَّبٌ ورَجُلٌ مُقَشَّبُ الحَسَبِ: غیر خالص حسب، مرد جس کا حسب خالص نہ ہو۔

۲۔ قَشَبَ ـِ قَشْبًا السیفَ: تلوار صیقل کرنا۔ قَشُبَ ـُ قَشَابَۃً الشیئُ: صاف ہونا۔ تَقَشَّبَ السیفُ: تلوار کا زنگ خوردہ ہونا۔ القِشْبُ ج اَقْشَابٌ: زنگ۔ القَشِبُ: نیا پرانا۔ سَیْفٌ قَشِبٌ: صیقل شدہ یا زنگ خوردہ تلوار۔ القَشِیْبُ ج قُشُبٌ وقُشْبٌ: نیا، صاف ستھرا، سفید۔ سَیْفٌ قَشِیْبٌ: صیقل شدہ تلوار، زنگ آلود تلوار۔ القُشْبَانِیَّۃُ: پرانی چادر۔

۳۔ قَشَبَ ـِ قَشْبًا علیہ: پر بہتان لگانا ــ الرجلَ: کو عار دلانا، پر عیب لگانا، سے بری بات کہنا۔ ــ الرجلُ: نیک نامی یا بدنامی کمانا ــ فلانًا بسوء: کو برائی سے ملوث کرنا۔ ــ ہٗ بشرٍّ: کو برائی سے یاد کرنا۔ قَشَّبَ الشیئَ: کو میلا کچیلا کرنا۔ فلانًا بسوء: کو برائی سے ملوث کرنا۔ و تَقَشَّبَ ت یدُہٗ او شفتُہٗ (طب): کے ہاتھ یا ہونٹ کو زہر لگنا (سریانیہ)۔ اِقْتَشَبَ: نیک نامی یا بدنامی کمانا اِسْتَقْشَبَ ہٗ: کو گندہ سمجھنا۔ القَاشِبُ (فا): کمزور نفس والا۔ واقعی عیوب بیان کرنے والا القَشْبُ: گندہ۔ القِشْبُ ج اَقْشَابٌ: نفس۔ ـــ من الطعام: کھانے کا ردی حصہ، کہا جاتا ہے رَجُلٌ قِشْبٌ خِشْبٌ: بے خیر آدمی۔ القَشَبُ: شدید سردی والی ہوا کی وجہ سے ہاتھوں اور ہونٹوں کا سخت ہونا اور پھٹ جانا۔ القِشْبَۃُ: بے خیر۔ خسیس آدمی۔

۴۔ القِشْبُ ج اَقْشَابٌ: سخت خشک۔

۵۔ قَشْبَرَ: ایندھن کی ردی لکڑیاں یا لکڑیوں کا چورہ جمع کرنا (عامیہ)۔

قشد: قَشَدَ ـُ قَشْدًا ہٗ: کو برہنہ کرنا، کھولنا۔ القِشْدَۃُ: پیلا کھمبن (ن) ایک بہت دودھ والا پودا۔ القُشَادَۃُ: گھی کا تلچھٹ۔

○ قَشّ: بھوسہ، تنکا، گھاس پھوس۔ حُمَّی القش: چپ کا سی۔ قَشَّۃ: ایک تنکا۔ قَشَّۃُ ثقاب: ماچس۔ دیا سلائی۔ قَشِیش: گندگی، میلا، غلاظت، کوڑا کرکٹ، ردی چیز، فضلہ، ردی، ردی ٹکڑا، پرزہ وغیرہ۔ مِقَشَّۃ: جھاڑو، جاروب۔ قِشْب جمع اَقْشَاب: زہر۔ قَشِیب جمع قُشُب: نیا، صاف، پالش کیا ہوا، اجلا کیا ہوا، چمکایا ہوا، صیقل کیا ہوا۔

○ قَشَدَ ـــ قَشْدًا ہ: بالائی، جھاگ یا مکھن اتارنا قِشدۃ: بالائی، ملائی۔

قشر ۱۔ قَشَرَ ـِ قَشْرًا و قَشَّرَ ہٗ: کی کھال یا چھال اتارنا۔ قَشِرَ ـَ قَشَرًا: موٹی کھال والا ہونا۔ تَقَشَّرَ واِنْقَشَرَ: چھل جانا۔ اِقْتَشَرَ الرجُلُ: ننگا ہونا صفت۔ مُقْتَشِرٌ، القَاشِرَۃُ: قاشِرُ کی مونث: پہلا زخم جو کھال کو پھاڑ دے، عورت جو اپنے چہرہ کو مل مل کر اس کا رنگ صاف کرے۔ القَاشُوْرُ والقَاشُوْرَۃُ من الاعوام: سخت قحط کا سال۔ سَنَۃٌ قَاشُوْرَۃٌ وقَاشُوْرٌ: قحط کا سال۔ القِشْرُ ج قُشُوْرٌ: چھلکا، لباس، درخت کے تنے اور ٹہنیوں کا سطحی اور خارجی حصہ جو لکڑی کا احاطہ کئے ہو بعض درختوں کے چھلکے بہت مفید مواد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ــ و القَشْرُ (ح): بالشت کے برابر مچھلی۔ القُشْرَانُ: ٹڈی کے دونوں پر۔ القَشِرُ و القَشِیْرُ: بہت چھلکے والا، کہا جاتا ہے۔ تَمْرٌ قَشِرٌ و قَشِیْرٌ: یعنی بہت چھلکے والی کھجور۔ القُشْرَۃُ والقَشَرَۃُ و القُشَرَۃُ: بارش جو سطح زمین کو صاف کر دے۔ القِشْرَۃُ: چھلکا مثلاً قِشْرَۃُ البَیْضَۃِ: انڈے کا چھلکا۔ القُشَارُ: سانپ کی کھال۔ القُشَارَۃُ: اتارا ہوا چمڑا یا چھال۔ الاَقْشَرُ: چھلکا اتارا ہوا، گرمی کی وجہ سے چھلی ہوئی ناک والا، سخت سرخی والا۔ ابرص۔ ــ من الارض: سرخ سفید زمین۔ شَجَرَۃٌ قَشْرَاءُ: کہیں کہیں سے چھلا ہوا درخت۔ حَیَّۃٌ قَشْرَاءُ: سانپ جس نے کیچلی اتار دی ہو القَشُوْرُ: چہرہ کو صاف کرنے والی دوا۔ المُقَشَّرُ (مفع) کہا جاتا ہے جاء بالجواب المقشر اس نے واضح جواب دیا اور کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ مُقَشَّرٌ: ننگا مرد۔ المَقْشُوْرَۃُ: چھلکا اتاری ہوئی گندم سے بنایا جانے والا کھانا۔ القِشْرِیَّاتُ (ح) مختلف جانور جو سب کے سب یا اکثر آبی ہوتے ہیں قشری (خول دار)

۲۔ قَشَرَ ـُ قَشْرًا وقَشَّرَ القومَ: لوگوں کے پاس بدشگونی لانا۔ القَاشُوْرُ: منحوس۔ القُشْرَۃُ: منحوس۔

۳۔ القَاشُوْرُ والقَاشِرُ من الخیل: گھوڑ دوڑ کا آخری گھوڑا۔ الاَقْشَرُ: بہت سوال کرنے والا۔ المِقْشَرُ: سوال میں اصرار کرنے والا۔

○ قِشْر جمع قُشُور: لفافہ، خول، کھپرا، چھلکا، پوست، چھال، پپڑی، کھال، کھرنڈ، سر کی خشکی، بفا، بھوسی، فلس، سانپ کی کینچلی، جمع قُشور: کوڑا کرکٹ، فضلہ، معمولی چیزیں، سخت چیزیں، تکلفات بفا، قشر الرأس: بفا۔ قِشْرَۃ: (پھل کا) چھلکا، (انڈے، اخروٹ کا) خول، چھال، کھال، پپڑی، کھرنڈ، بھوسی، فلس، سانپ کی کینچلی، قِشْری: چھلکے کا، خول کا، پوست کا، فلس کا، پپڑی دار، کھردرا، کھپرے کے مشابہ، فلس کے مانند،

خول دار، قشری۔ الحیوانات القِشریَۃ: خول دار (یا قشری) جانور۔ تقشیر: چھلکے اتارنا، تراشنا، کاٹنا، کترنا، چھیلنا، خول کے اندر سے، بیج یا موتی نکالنا، چھال، چھیلنا، کھال، اتارنا، پرت اتارنا، مونڈنا، کھرچنا، بھوسی صاف کرنا، مقشر کرنا۔

قشط: قَشَطَ ـِ قَشطًا ہُ: کو لاٹھی سے مارنا۔

۲۔ قَشَطَ ـِ قَشطًا عنہ بکذا: کو سے ننگا کرنا۔ عوام کہتے ہیں۔ قَشَطَ الشیئُ: چیز اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور قَشَطَ الخاتمُ مِنَ الخِنصَرِ: چھنگلی انگلی سے انگوٹھی گرگئی۔ قَشَطَ ہُ الشیئَ: سے کوز بردستی چھین لینا صفت مُقَشِّطٌ (عامیہ)۔ تقشّط وانقشط: ننگا ہونا۔ ـت السماءُ: صاف بے ابر ہونا۔ القَشطَۃ: بالائی (عامیہ)۔ القِشاطُ: (ایک لغت میں کِشاطٌ ہے) چمڑے کا تسمہ جس سے گھوڑے کے تنگ کی ایک طرف کو دوسرے سے باندھا جاتا ہے چمڑے یا کپڑے کا جیبو، کارتوس کی پٹی، پہیہ چلانے کی پیٹی۔ القَشّاطُ: بہت لوٹنے والا۔ المِقشَطُ ج مَقاشِطُ: چھال یا کھال اتارنے کا آلہ۔ المِقشَطَۃُ عند العقادین: ریشمی دھاگے صاف کرنے کا آلہ۔

◯ قِشطَۃ و قَشطَۃ: بالائی، ملائی، شریفہ (پھل)، ایک گودے دار میٹھا پھل جس کا چھلکا پرت دار ہوتا ہے۔ اس پھل کا درخت یا جھاڑی Sweetsop۔ قُشاط جمع قشاطات: گتا، قاش، ٹکڑا، مہرہ (مہرہ بازی، نرد بازی میں)۔ مِقشَط جمع مقاشِط: ربڑ (تحریر مٹانے کا) مٹانے کا چاقو مِقشَطۃ: جمع مقاشط: چھیل کر، پیس کر، صیقل کرکے یا ٹھپا لگا کر تیار کرنے والی مشین۔

قشع: ۱۔ قَشَعَ ـَ قَشعًا القومَ: کو متفرق کرنا۔ ـت الریحُ السحابَ: ہوا کا بادلوں کو کھول دینا۔ اَقشَعَ القومُ: منتشر ہونا، متفرق ہونا۔ القوم عن الماء اوالمکان: سے ہٹ جانا۔ ـت الریحُ السحابَ: ہوا کا بادلوں کو کھول دینا۔ السحابُ: بادل کھل جانا، چلے جانا عوام قَشَعَ بمعنی دیکھنا استعمال کرتے ہیں۔ تقشّع القومُ: متفرق ہونا۔ ــ السحابُ: بادل کھل جانا چلے جانا۔ اِنقَشَعَ القومُ عن اماکنھم: سے دور ہونا، علیحدہ ہونا۔ ــ السحابُ: بادل کھل جانا چلے جانا۔ ــ اللیلُ: رات ختم ہونا۔ ــ الھمُّ من القلب: دل سے غم کا زائل ہونا۔ القَشعُ: کھل جانے اور جانے والا بادل۔ القَشعُ ج قِشَعٌ: بڑھاپے کی وجہ سے ڈھیلے گوشت والا۔ خشک شدہ مٹی کا ٹکڑا۔ ــ والقُشَعُ: حمام کا کوڑا کرکٹ۔ القَشعَۃُ ج قِشَاعٌ: قَشعٌ کا اسم مرہ۔ خشک شدہ مٹی کا ایک ٹکڑا، بادشاہی، بڑھاپے کی وجہ سے ڈھیلے گوشت والی بڑھیا۔ ــ والقِشعَۃَ ـ قَشَعٌ: بادل کا ٹکڑا جو کھلنے کے بعد باقی رہ جائے۔ ـ ــسَاعَۃ: رینٹ۔ القِشعُ من الکلاءِ: متفرق گھاس۔

۲۔ قَشِعَ ــ قَشَعًا الشیئُ: خشک ہونا۔ القَشعُ ج قُشُوعٌ: پرانا پوستین چمڑے کا خیمہ۔ ــ ج قِشَعٌ: خشک کھال، زنبیل، پرانی مشک۔ القِشعُ: خشک۔ القُشعَۃُ ج قِشاعٌ: پرانے پوستین کا ٹکڑا۔ ــ والقِشعَۃُ ج قِشَعٌ: خشک کھال کا ٹکڑا۔ القِشاعُ: پرانا ٹکڑا، رقعہ، کہا جاتا ہے ماعلیہ قِشاعٌ: اس پر بوسیدہ کپڑا بھی نہیں ہے۔

۳۔ القِشعُ ج قُشُوعٌ: بے وقوف، شتر مرغ کا پر۔ ــ ج قِشَعٌ (ح): زیچو۔ القِشعُ: غیر مستقل مزاج آدمی۔ اَراکَۃٌ قَشِعَۃٌ: گنجان بہت پتوں والا پیلو کا درخت شاۃٌ قَشِعَۃٌ: دبلی پتلی بکری۔ القَشاعُ: مادہ بجو کی آواز کہا جاتا ہے ھو اقشع منہ: یعنی وہ اس سے اشرف ہے۔

۴۔ اِقشَعَرَّ جلدُہُ: کانپنا، سمٹنا، کھردرا ہونا، رنگ بدلا ہوا ہونا صفت مُقشَعِرٌّ ج مُقشَعِرُّونَ و قَشاعِرُ۔ الشَعرُ: خوف یا سردی کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہونا۔ ــ ت الارضُ: زمین کا بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہونا۔ ــ ت السنۃُ: خشک سالی ہونا، قحط والا ہونا۔ القُشاعِرُ: چھونے میں سخت۔ القُشَعرِیرَۃُ: اِقشَعرٌّ سے اسم: کپکپی۔ المُتَقَشعِرُ بمعنی مُقشَعِرٌّ

۵۔ القَشعَمُ ج قَشاعِمُ وقَشاعِمَۃ: عمر رسیدہ (مرد یا عورت یا گدھ) موٹا عمر رسیدہ، (ہر چیز پر استعمال ہو جاتا ہے)۔ ــ (ح) شیر ــ ام قشعم: لڑائی، مصیبت (ح) بجو، موت۔ القِشعَامُ و القَشعَمَانُ و القُشعُمانُ (ح): بڑا نر گدھ۔ عمر رسیدہ مرد یا گدھ۔ القِشعامَۃُ: جال۔ القُشعُومُ: چھوٹے جسم والا، چیچڑی۔

◯ قَشَعَ ــ قَشعًا ہ / ہ: کو تتر بتر کرنا، منتشر کرنا، رگیدنا، کا پیچھا کر کے نکال دینا ــ ہ: کو زائل کرنا، دور کرنا، دفع کرنا، اَقشَعَ: (بمعنی بالائیز) ہ مجمع کو منتشر کرنا۔ ــ ہ: (بادل، تاریکی) کو اٹھا لیجانا، منتشر کرنا۔ تقشّع وانقشع: بکھر جانا، تتر بتر ہو جانا، منتشر ہو جانا، رگیدا جانا، پیچھا کر کے نکال دیا جانا (مجمع کا) منتشر ہونا (بادلوں، تاریکی کا) اٹھ جانا، منتشر ہو جانا، چھٹ جانا۔ اِقشَعَرَّ: (سردی یا خوف سے) لرزنا، کانپنا، کپکپانا، تھرتھرانا، ہلنا، ہچکولے کھانا، جھٹکے کھانا، رعشہ طاری ہونا۔ شیئٌ تقشعر منہ الجلود (او الابدان): رونگٹے کھڑے کرنے والی چیز، دہشت انگیز چیز، بھوت پریت جیسی چیز۔ قُشعَرِیرَۃ: کپکپی، لرزہ، تھرتھری، کپکپاہٹ، لہر، تھراہٹ، لرزہ براندام ہونا، تپ لرزہ۔

◯ ام قشعم: چرخ، ٹکڑ بگر، مصیبت۔

قشف: قَشِفَ ـَ قَشَفًا و قَشُفَ ـُ قَشافَۃً: بدحال ہونا، پھٹے پرانے حال والا ہونا، تنگ گزران ہونا، گندہ جسم ہونا صفت۔ قَشِفٌ و قَشفٌ وقَشَفٌ۔ قَشَّفَ اللّٰہُ عیشَہُ: اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی زندگی تنگ کر دینا۔ تقشّف: بدحال ہونا، تنگ گزران ہونا۔ ــ فی لباسہ: پیوند لگے ہوئے اور میلے کچیلے کپڑے پہننا۔ عامٌ اَقشَفُ: سخت سال۔

◯ قَشِفَ: ہاتھوں کا پھٹنا، کھردرا اور پھٹے ہوئے جسم والا ہو جانا۔ تقشّف: زبوں حال ہونا، تارک الدنیا ہونا، جسمانی خواہشات کو مارنا، پھٹی ہوئی جلد والا ہونا، کھردری اور پھٹے ہوئی جلد والا ہونا۔ قِشفَۃ جمع قِشَف: روٹی کا چھلکا۔ تَقَشُّف: پرہیزگاری، تقویٰ، زہد، رہبانیت، نفس کشی، سادہ اور قدیم طرز زندگی، مُتَقَشِّف: زاہدانہ، درویشانہ، راہبانہ، تارک لذات، زاہد، عابد، فقیر، سنیاسی، کھردرے اور پھٹے ہوئے (ہاتھ)۔ المُتَقَشِّفۃ: سنیاسی لوگ، زاہد لوگ۔

قَشقَشَ ہ من: کو (خارش، چیچک) سے صحتیاب کرنا۔ ــ ہ: کو جھاڑو کے ذریعے ہٹانا، دور کرنا۔

قَشَل: القِشلۃُ: لشکر کے اترنے کی جگہ (اطالیہ، ترکیہ)۔

◯ قَشِلَ ــ قَشلاً: غریب ہونا، نادار ہونا، بے مایہ ہونا، بے وسیلہ ہونا۔ قَشلَۃ جمع قِشَل (فوجی) بیرکس، ہسپتال۔ قُشلاق جمع قُشلاقات: (فوجی) بیرکیں۔

قشم: ۱۔ قَشَمَ ـُ قَشمًا الطعامَ: کو زیادہ کھانا، مزیدار خوراک کھانا۔ اِقتَشَمَ ہ: کو ادھر ادھر سے کھانا۔ القَشَمُ ج قُشُومٌ: گوشت جبکہ پک کر سرخ ہو جائے۔ القِشمُ ج قُشُومٌ بمعنی القَشَمُ: پک کر سرخ ہو جانے والا گوشت، چربی۔ القُشامُ و القُشامَۃ: دسترخوان پر بچا ہوا بے کار حصہ۔ القَشِیمُ ج قُشُمٌ: خشک سبزی۔ المَقشَمُ: قَشَمَ کا ظرف مکان کہا جاتا ہے مااصابت الابلُ مَقشَمًا: اونٹوں نے کوئی چرنے کی چیز نہیں پائی۔

۲۔ قَشَمَ ـَ قَشمًا الرجلُ فی بیتہ: میں داخل ہونا۔ القِشمُ و القُشمُ ج قُشُومٌ: زمین میں پانی بہنے کی نالی۔

۳۔ القِشْمُ ج قُشُومٌ: طبیعت، جسم، حال، ہیئت، اصل۔ القَشِیْمُ موت۔

۴۔ القَشْمَرُ پستہ قد، موٹا گھٹے ہوئے بدن والا۔

ⓘ قِشْمِش: یونانی کشمش، منقی، مویز منقّی داغ۔

قشو: ۱۔ قَشَا یَقْشُو قَشْوًا و قَشّی العودَ: لکڑی چھیلنا۔ــــ الوجه: چہرہ پونچھنا۔ کہا جاتا ہے: قَشَّاهُ عن حاجته: یعنی اس کو اس کی حاجت سے باز رکھنا۔ تَقَشَّی الشیئُ: چھل جانا۔ القَشْوَانُ من الرجال: مونث قَشْوَانَةٌ: کمزور۔ المَقْشُوُّ والمُقَشَّی: چھیلا ہوا۔

۲۔ اَقْشَی اِقْشَاءً مالداری کے بعد محتاج ہونا۔

۳۔ القَاشِیُّ (فا) کھوٹا پیسہ۔ القُنَاءُ تھوک۔ القَشْوَةُ ج قِشَاءٌ و قَشَوَاتٌ کھجور کے پتوں کی ٹوکری جس میں عورتیں روئی یا عطر وغیرہ رکھتی ہیں۔ القَشِیُّ من الدراهم کھوٹا درہم۔

ⓘ قاشانی: چینی مٹی، چینی کے برتن۔

قص: قَصَّ ـُـ قَصًّا الشعرَ و نحوَهُ: قینچی سے بال وغیرہ کاٹنا۔ــــ النَّسَّاجُ الثوبَ: کپڑے کے جھور (پھندنے) کاٹنا۔ــــ ہُ: کے کان کے اطراف کو کاٹنا، کہا جاتا ہے مایَقُصُّ فی یدہ شیئٌ: کوئی چیز اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہتی۔ قَصَّصَ الشیئَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اِنْقَصَّ: کٹ جانا۔ القَاصُّ: وہ شخص جو اونٹ وغیرہ کے بال اتارنے کا پیشہ کرتا ہو۔ القَصُّ ج قِصَاصٌ (مص) سینہ یا اس کی ہڈی۔ القَصَصُ ج قِصَاصٌ: سینہ یا اس کی ہڈی۔ قَصَصُ الشَّاۃِ: بھیڑ کا کٹا ہوا اون۔ القُصَّةُ ج قُصَصٌ و قِصَاصٌ: پیشانی کے بال، بالوں کا گچھا۔ القَصَّةُ ج قِصَاصٌ: قَصَّ سے اسم مرہ۔ القُصَاصُ: سر پر قینچی چلنے کی جگہ۔ قُصَاصُ الشعر بتثلیث القاف بال نکلنے کی منتہا۔ القَصِیْصُ: واحد قَصِیْصَةٌ ج قَصَائِصُ: سینہ پر بال نکلنے کی جگہ۔ القَصِیْصَةُ: جماعت جو ایک جگہ پر جمع ہو، کہا جاتا ہے۔ ترکتھم قصیصة واحدة: یعنی میں نے انہیں ایک جگہ اکٹھے ہوئے چھوڑا۔ المِقَصُّ ج مَقَاصٌّ: قینچی۔ المُقَصَّصُ (مفع): پیشانی کے بالوں والا۔ رجل مُقَصَّصٌ: بڑے سینہ والا۔

۲۔ قَصَّ ـُـ قَصًّا و اَقَصَّتِ الشاۃُ: کا حمل ظاہر ہونا صفت مُقِصٌّ ج مَقَاصٌّ

۳۔ قَصَّ ـُـ قَصَصًا علیه الخبرَ: سے کو بیان کرنا۔ــــ قَصًّا و قَصَصًا اَثَرَہُ: کی آہستہ آہستہ پیروی کرنا۔ تَقَصَّصَ الکلامَ: کو یاد کرنا۔ــــ اَثَرَہُ: کی پیروی کرنا۔ اِقْتَصَّ اَثَرَہُ: کی تابعداری کرنا۔ــــ الحدیثَ: کو روایت کرنا۔ القَاصُّ (فا): قصہ گو خطیب۔ القِصَّةُ ج قِصَصٌ والاُقْصُوْصَةُ ج اَقَاصِیْصُ بات، واقعہ، حالت۔ کہانی۔ القَصَّاصُ: اجرت لے کر مجمع میں قصہ بیان کرنے والا۔ القَصِیْصَةُ: اونٹ کہ جس سے قافلہ کی پیروی کی جائے۔ القصة۔ المَقَصُّ: نشان۔ اثر

۴۔ قَصَّ ـــُـ قَصًّا الموتُ فلانًا: قریب الموت ہونا کہا جاتا ہے، ضَرَبَہُ حَتّٰی قَصَّہُ علی الموت او اَقَصَّہُ من الموت: اس کو اتنا مارا کہ موت کے قریب پہنچادیا۔ قَاصَّ قِصَاصًا و مُقَاصَّۃً ہُ: سے بدلہ لینا، قصاص لینا۔ اس سے وہی کچھ کرنا جو اس نے کیا تھا۔ الرجُلَ بما کان له قبله کو بدلہ میں روک لینا۔ اَقَصَّ الموتُ فلانًا کو موت کا قریب کرلینا۔ کہا جاتا ہے ضربه حتی اقصه علی الموت: اس کو مارا یہاں تک کہ اسے موت کے قریب پہنچادیا۔ــــ الامیرُ فلانًا من فلان: کا سے بدلہ لے لینا۔ــــ الرجُلُ من نفسه: خود کو اپنے آپ سے بدلہ لینے دینا۔ تَقَاصَّ القومُ: ایک کا دوسرے سے بدلہ لینا۔ اِقْتَصَّ من فلان: سے قصاص لینا۔ اِسْتَقَصَّ ہُ: کو دشمن سے قصاص یا بدلہ لینے کو کہنا۔ القِصَاصُ: گناہ کی سزا، بدلہ۔ فاعل سے وہی کیا جانا جو اس نے کیا ہو۔

۵۔ القَصَّةُ ج قِصَاصٌ: چونا۔ القَصَاصُ واحد قَصَاصَةٌ (ن): ایک قسم کا پودا جسے شہد کی مکھی چاٹتی ہے۔ القَصِیْصُ واحد قَصِیْصَةٌ ج قَصَائِصُ (ن): ایک قسم کی نباتات جو سانپ کی چھتری کی جڑوں میں ہوتی ہے اور اس کے پانی سے سر دھوتے ہیں۔ القَصِیْصَةُ: چھوٹا اونٹ کہ جس پر کھانا اور اثاثہ لادیں۔

۶۔ قَصْقَصَ الشیئَ: کو توڑنا۔ــــ بالجرو: کتے کے پلے کو بلانا۔ تَقَصْقَصَ اَثَرَہُ: کی پیروی کرنا۔ــــ کلامَہُ: کو یاد کرنا۔ حَیَّۃٌ قَصْقَاص: خبیث سانپ۔ اسدٌ او رجُلٌ قَصْقَاصٌ: موٹا اور پستہ قد شیر یا آدی۔ حَیَّۃٌ قُصَاقِص: خبیث سانپ۔ اسد او رجل قُصَاقِصٌ ج قَصَاقِصُ و قُصَاقِصَاتٌ و قُصْقُصٌ و قُصْقُصَۃٌ: موٹے جسم والا یا پست قد، شیر یا مرد۔ القَصْقَصُ: سینہ میں بال اگنے کی جگہ، آواز۔

ⓘ قَصَّ ـُـ قَصًّا و قَصَصًا اَثَرَہُ: کے نقش قدم پر جانا کے نشانات دیکھ کر چلنا۔ــــ علی ہ: کو کچھ بتانا، کو کچھ کہنا، سے کچھ بیان کرنا، کوئی کہانی کہنا۔ قَاصَّاہ: سے بدلہ لینا، انتقام لینا، کو سزا دینا، کے ساتھ حساب صاف کرنا۔ تَقَصَّصَ اثرہ: بمعنی قَصَّ اثرہ۔ اِقْتَصَّ اثرہ: کے نقش قدم پر چلنا، نشانات دیکھ کر چلنا۔ اِقْتَصَّ ہ: کو صحیح صحیح بتانا، کو ہو بہو بیان کرنا۔ــــ من: سے انتقام لینا، کو سزا دینا۔ قَصّ: تراشے، کترنیں، ٹکڑے، ریزے، چھیلنیں، قاشیں، چیتھڑے، ردی ٹکڑے، پرزے، سینے کی ہڈی، قُصَّة جمع قُصَص و قِصَاص۔ پیشانی کے بال، سامنے کے بال، بالوں کی لٹ، کاکل، زلف۔ قِصَّة: کاٹنے کا انداز، تراش جمع قِصَص۔ کہانی، روایت، حکایت، داستان، سرگزشت، قصہ، قصة هذا الشیٔ ان: معاملہ یوں ہے کہ اس بات کو یہ کہہ کر بہتر بیان کیا جاسکتا ہے کہ قَصَص: تراشے، کترنیں، ٹکڑے، ریزے، ردی ٹکڑے، چھیلنیں، قاشیں، چیتھڑے پرزے، کہانی، روایت، حکایت، داستان، قصہ، سرگزشت۔ قِصَصِی و قَصَصِی: حکایتی، افسانوی، رزمیہ شاعری سے متعلق۔ جمع قِصَصِیُّون: کہانی بیان کرنے والا، قصہ گو، افسانہ نگار، ناول نگار، قرون وسطی کا رزمیہ نگار، داستان گو، رومان نگار، فرضی افسانے بنانے والا۔ الشِعر القصصی: رزمیہ شاعری۔ قُصَاصة (اسم جمع قُصَاص و قُصَاصَۃ) جمع قُصَاصات: تراشہ، اخبار کا تراشہ، ٹکڑا، کترن، چیتھڑا، کاغذ کا ٹکڑا، کاغذ کا پرزہ۔ قَصَّاص: مونڈنے والا، تراشنے والا، پتہ چلانے والا، کھوجی، افسانہ نگار، ناول نگار، رومان نگار۔ اُقْصُوصه جمع اَقَاصِیص: کہانی، حکایت، داستان، قصہ، ناول، افسانہ۔ مِقَص جمع مَقَاص: قینچی، (آٹوموبائل یا کوچ) کے سپرنگ۔ ابو مِقَص: مصنوعی بالوں کا کنٹوپ، کف گیر۔ قِصَاص: بدلہ، انتقام، سزا، تصفیہ حساب۔ مُقَاصَّة: تصفیہ حساب، توازن، تطابق، پاسنگ، معاوضہ۔ غُرْفَة المقاصة: حساب گھر، مبادلہ گھر۔ مَقْصُوص جمع مُقَاصِیص: طرہ کاکل، خم زلف، بالوں کی الگ لٹ، زلف مصنوعی، کانوں پر ڈالی ہوئی بالوں کی لٹ۔ مقصوجة: کف گیر۔ قُصَاج جمع قصاجات: پلاس، سنی، موچنا، سنسی۔

قصب: ا۔ قَصَبَ ـِـ قَصْبًا ہُ: کو کاٹنا۔ــــ الشاۃَ: بکری کے عضو کاٹنا۔ قَصَّبَ الزرعُ: ڈنٹھل والی ہونا۔ــــ فلانًا: کے ہاتھوں کو گردن سے ملا کر باندھنا۔ــــ الشَعَرَ: بالوں کو گھنگھریالے بنانا۔ــــ البَنّاءُ الحجرَ فی اصطلاح العامة: (ب) پر کھدائی کرنا اور اسے ہموار کرنا۔ــــ ت المراۃُ شَعَرَها: بالوں کی زلف کی طرح مینڈھیاں بنانا۔ اَقْصَبَ المکانُ: جگہ کا

نرکل والی ہونا۔ اِقْتَصَبَ الشيئَ کو اپنے لئے کاٹنا۔ القَاصِبُ (فا) ج قُصَّابٌ: قصائی، بانسری بجانے والا۔ بادل بہت گرجنے والا۔ القُصْبُ ج اَقْصَابٌ: آنت (ع ا) پیٹھ۔ القَصَبُ واحد قَصَبَةٌ: نرکل، بانس (قَصَبُ السُّكَّرِ (ن) گنّا عام لوگ اسے قَصَبُ المصّ کہتے ہیں۔ (ع ا) ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں، گول اور لمبی جوف دار ہڈی، گودے والی ہڈی، حلق کی نالی، آنسو بہنے کی جگہ، مستطیل جوہر (کہا جاتا ہے اَحرَزَ قَصَبَ السبقِ یعنی وہ غالب رہا، اس کی اصل یوں ہے کہ میدان مسابقت میں ایک بانس گاڑ دیا کرتے تھے جو شخص آگے بڑھ جاتا تھا وہ اسے اکھاڑ لیتا تھا تا کہ غالب رہنے کی علامت ہو)، سونے چاندی سے جڑاؤ کئے ہوئے دھاگے۔ القَصَبَةُ (القَصَبُ کا واحد) بالوں کا لپٹا ہوا گچھا۔ قَصَبَةُ الاِصبعِ انگلی کا سرا۔ قَصَبَةُ المَرِيِّ نرخرہ۔ قَصَبَةُ الاَنفِ ناک کا بانسہ۔ قَصَبَةُ الرِئة سانس کی نالی۔ اَرْضٌ قَصِبَةٌ بانسوں والی زمین۔ القِصَابَةُ قصائی کا پیشہ، بالوں کا لپٹا ہوا گچھا۔ القَصَّابُ: قصائی، بانسری بجانے والا۔ القَصَّابَةُ ج قَصَّابٌ القصاب کا مونث، بانسری۔ القُصَّابَةُ ج قُصَّابٌ بالوں کا لپٹا ہوا گچھا۔ القَصْبَاءُ واحد قَصْبَاءَةٌ: بہت سے بانس، نرکل یا بانس اگنے کی جگہ۔ اَجَمَةٌ قَصْبَاءُ: بہت نرکل یا بانسوں والی جھاڑی۔ القَصُوبُ من الغنم بھیڑ جس کا اون اتار دیا جائے۔ القَصِيبَةُ ج قَصَائِبُ: نرکل یا بانس کی پوری، بالوں کا گچھا۔ التَّقصِبَةُ والتَّقصِيبَةُ ج تَقَاصِبُ وتَقَاصِيبُ: بالوں کا گچھا۔ المَقْصَبَةُ: بانس یا نرکل نکلنے کی جگہ۔ اَرْضٌ مِقْصَابٌ ومَقْصَبَةٌ: بہت زیادہ بانس یا نرکل والی زمین۔ المُقَصَّبُ (مفع) من الثياب تہہ شدہ کپڑا۔ ثِيَابٌ مُقَصَّبَةٌ سونے چاندی کی تاروں کا کام کیا ہوا کپڑا۔ شَعرٌ مُقَصَّبٌ گھنگھریالے بال۔ المُقْصِبُ (فا) سبقت لے جانے والا۔

۲۔ قَصَبَ ـِ قَصْبًا وقُصُوبًا البعيرُ اونٹ کا پانی پینے سے باز رہنا۔ ــ الانسانَ وغيرَهُ کو پانی پینے سے باز رکھنا اور سیرابی سے پہلے روک دینا۔ اَقْصَبَ الراعي: چرواہے کے اونٹوں کا پانی پینے سے باز رہنا۔ القَاصِبُ والقَصِيبُ من الابل پانی سے رکنے والا اونٹ، کہا جاتا ہے۔ بَعِيرٌ قَصِيبٌ ونَاقَةٌ قَصِيبٌ پانی سے رکنے والا اونٹ اور پانی سے رکنے والی اونٹنی۔

۳۔ قَصَبَ ـِ قَصْبًا وقُصُوبًا الرجلَ کو گالی دینا۔ قَصَّبَ ہ: کو گالی دینا۔ القَصَّابَةُ ج قَصَّابٌ لوگوں کے عیوب بیان کرنیوالا۔

۴۔ القَصَبُ: مروارید آبدار وتازہ، زبرجد آبدار وتازہ جو یاقوت سے مرصع ہو۔ القَصَبَةُ: نیا کھدا ہوا کنواں، شہر یا ملک کے شہروں میں سے بڑا شہر، گاؤں یا گاؤں کا درمیان۔ ــ في المساحة 40/1/6 مربع فٹ۔ القَصَبِيُّ ج القَصَبُ: السی کا باریک کپڑا۔ المُقْصِبُ دودھ جس پر گاڑھا جھاگ ہو۔

(ج) قَصَّبَ ہ (ذبح کئے ہوئے جانور) کے گوشت کو کاٹ کر ٹکڑے کرنا (کا) گوشت کاٹنا۔ قَصَّبَ ہ (بالوں کو) گھنگھریالے بنانا، کسی چیز کو کمخواب یا زربفت بنانا، پر سونے چاندی کے دھاگوں سے بیل بوٹے کاڑھنا۔ نقش ونگار بنانا، گلکاری کرنا، زردوزی کرنا۔ قَصَبٌ (اسم جمع) بید، گنا، نرسل، غلاتی گھاسوں کی ڈنڈی اور ڈنٹھل، سونے چاندی کا دھاگا، سونے چاندی کی سوزن کاری، زربفت، کمخواب، دیبا، قصب الذهب: سونے کی کمخواب۔ قصب السكر گنّا، القصب الهندى بانس، احرز قصب السبق (والغلب): فتح حاصل کرنا، بڑی کامیابی حاصل کرنا، جیتنا۔ قَصَبَة جمع قصبات بید، نرکل، پائپ، ٹیوب، تنا، پائپ ٹیوب، قلم، نرخرا، سانس کی نالی، نباتات کی نالی، کنویں کی بلی، بانسری جیسے ہوا باجہ، ایک لمبائی ناپنے کا پیمانہ، قلعہ، بڑا شہر قصبة الرئة سانس لینے کی نالی، نرخرا، قصبة المرئ: حلقوم، گلا، غذا کی نالی، قِصابة: قصاب کا پیشہ قُصَيبَة: جمع قَصَّاب: قصائی، ناظر مساحت ارضی۔ قُصَابة (نرکل کی) نلکی، مُقَصَّب سونے چاندی کے دھاگوں سے بیل بوٹے بنایا ہوا، نقش ونگار بنایا ہوا، سوزن کاری کیا ہوا، منبت کاری کیا ہوا، کمخوابی، زری، کامدار، کمخواب، زربفت یا دیبا سے سنوارا ہوا۔

قصد ۱۔ قَصَدَ ـِ قَصْدًا الرجلَ وله واليه کی طرف رخ کرنا، پر توجہ کرنا۔ ــ اليه پر اعتماد کرنا۔ ــ قَصَدَهُ: کی طرف جانا کہا جاتا ہے اَقْصَدَنِيَ اِلَيكَ الاَمرُ: کام یا معاملہ نے مجھے تیرے پاس آنے پر اکسایا۔ تَقَصَّدَہ کا ارادہ کرنا۔ القاصدُ الرسولى عند تابعى الكنيسة الرومانية وہ پادری جس کو پاپائے روم رومن گرجا کے خدام کی طرف اپنا نائب بنا کر بھیجے۔ القَصْدُ (مص) اعتماد، قصد، کہا جاتا ہے: هُوَ قَصْدُكَ: وہ تمہارے مقابل ہے۔ القَصَادَةُ الرَّسُولِيَّةُ وہ جگہ جہاں بھیجا جانے والا نائب ہو۔ القَصِيدُ لاٹھی۔ القَصِيدَةُ ج قَصِيدٌ وقَصَائِدُ: لاٹھی۔ المَقْصِدُ ج مَقَاصِدُ جائے قصد، کہا جاتا ہے۔ بَابُكَ مَقْصِدِيْ تمہارا دروازہ میرے لئے جائے قصد ہے۔

۲۔ قَصَدَ ـِ قَصْدًا في مشيه: سیدھی چال چلنا۔ ــ في الامر: میں درمیانہ روی اختیار کرنا۔ ــ في النفقة: متوسط خرچ کرنا، کہا جاتا ہے۔ اِقْصِدْ بِذَرْعِكَ یعنی ٹھہرو، توقف کرو۔ اِقْتَصَدَ في الامر میں میانہ روی کرنا۔ ــ في النفقة: متوسط خرچ کرنا۔ ــ في امرِهِ: میں مستقیم ہونا۔ القَاصِدُ (فا) ج قَوَاصِدُ: نزدیک۔ ــ من السفر آسان اور قریب کا سفر۔ طَرِيقٌ قَاصِدٌ: سیدھا راستہ۔ القَاصِدَةُ ج قَوَاصِدُ القاصد کی مونث کہا جاتا ہے۔ بَيْنَنَا وبَيْنَ المَاءِ لَيْلَةٌ قَاصِدَةٌ ہمارے اور پانی کے درمیان ایک رات کی مسافت ہے جس میں نہ تھکاوٹ ہے نہ تاخیر۔ القَصْدُ (مص): راستہ کی استقامت، میانہ روی کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ قَصْدٌ نہ تو بڑے ڈیل کا اور نہ ہی دبلا پتلا مرد کہا جاتا ہے۔ طَرِيقٌ قَصْدٌ: سیدھا راستہ، اور کہا جاتا ہے، اِنَّهُ عَلَى قَصْدٍ یعنی وہ ہدایت پر ہے۔ عَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اللہ کے اوپر ایسے راستہ کا بیان کرنا ہے جو سیدھا اور حق تک پہنچانے والا ہو۔ رَجُلٌ مُقْصَدٌ و مُقْتَصِدٌ: درمیانے جسم کا آدمی نہ موٹا نہ دبلا۔

۳۔ قَصَدَ ـِ قَصْدًا الشيئَ کو توڑنا۔ ــ الشاعرُ: قصائد بنانا۔ قَصُدَ ـُ قَصَادَةً البعيرُ: اونٹ کا موٹا ہونا۔ قَصَّدَ الشيئَ: کو توڑنا۔ ــ الشاعرُ: قصائد بنانا ــ القَصَائِدَ: کو مہذب کرنا، درست کرنا۔ اَقْصَدَ الشاعرُ: قصائد بنانا۔ تَقَصَّدَ وانْقَصَدَ الرمحُ: نیزہ کا ٹوٹنا۔ رمحٌ قَصِدٌ واَقْصَادٌ: ٹوٹا ہوا نیزہ۔ القِصْدَةُ ج قِصَدٌ: توڑی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔ القَصِيدُ: موٹا گودا، موٹا، موٹی جوان اونٹنی۔ ــ من الشِعرِ تین سے لے کر زائد شعروں کی نظم اور بقول بعض سولہ سے لے کر زائد شعروں کی نظم، درست اور مہذب کی ہوئی نظم۔ رُمْحٌ قَصِيدٌ ٹوٹا ہوا نیزہ۔ القَصِيدَةُ ج قَصِيدٌ و قَصَائِدُ: القصيد کا واحد مذکر موٹا گودا۔ ــ من الشِعرِ: سات یا دس اشعار سے زائد نظم۔ القَصُودُ موٹا گودا۔

۴۔ قَصَدَ ـِ قَصْدًا فلانا على الامر کو پر مجبور کرنا۔

۵۔ اَقْصَدَہُ کو ٹھیک نشانہ پر نیزہ مارنا۔ ــ ہ السهمُ کو تیر کا لگنا اور موقع پر ہلاک کر دینا ــ ت الحيّةُ فلانًا: سانپ کا کسی کو ڈس کر مار ڈالنا۔ تَقَصَّدَہ کسی کو موقع پر مار ڈالنا۔ ــ الكلبُ وغيرُهُ مرنا۔ المُقْصَدُ (مفع) جو شخص بیمار ہو اور فوراً مر جائے۔

۶۔ القَصَدُ بھوک، واحد قَصَدَةٌ: ہر خاردار درخت اگتے وقت۔ — من العوسج و نحوہ: عرؤی بیل وغیرہ کی نرم و نازک ٹہنیاں۔ المُقَصَّدَةُ: اونٹوں کے کانوں میں پائی جانے والی علامت

۷۔ القَصْدِیرُ قلعی، رانگا، ٹین، اس کے ٹکڑے کو قصدیرة کہا جاتا ہے۔

ⓒ قَصَدَ ـِ قَصْدًا ہ/ ہ/ الی: کے پاس سیدھا جانا، تاک کی سیدھ میں جانا۔ - ہ/الی: کو ملنے جانا۔ ـہ/الی: کسی جگہ جانا۔ — ہ/الی: کسی شخص کے پاس جانا۔ — ہ/الی: کا عازم ہونا، کا تعاقب کرنا، خواہاں ہونا۔ - ہ/الی: کیلئے سخت کوشش کرنا، کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا، کو مدنظر رکھنا۔ - ہ/الی: کی کوشش کرنا، کا ارادہ کرنا۔ — ہ ب من: سے کچھ مطلب ہونا، مراد ہونا، کا معنی ہونا، سے کچھ کہنے کی کوشش کرنا۔ — فی: میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا۔ - کفایت شعار ہونا، کم خرچ ہونا، کفایت شعاری سے کام لینا، بچت کرنا۔ قَصَدَ قصدَهُ: کے پاس جانا، کا پیچھا کرنا، کے نقش قدم پر چلنا۔ اَقْصَدَہ الی: کو کسی شخص کے پاس کسی جگہ جانے پر اُکسانا۔ -: قصائد کہنا یا لکھنا۔ تقَصَّدَ: ٹوٹا ہوا ہونا، ٹوٹنا۔ - ہ: سے ناراض ہونا، پر غصے ہونا، جھنجلانا۔ اِنقَصَدَ: ٹوٹا ہوا ہونا، ٹوٹنا۔ اِقتَصَدَ فی: میں یا پر درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ - بین: کے درمیان یا مابین درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ - بین: دو کے درمیان ثالثی کرنا، بطور ثالث ہونا۔ — فی: میں کفایت شعاری کرنا، کفایت شعار ہونا، دور اندیشی کرنا، کم خرچ ہونا، کفایت شعاری سے کام لینا۔ —— ہ: روپیہ پیسہ بچا کر رکھنا۔ -: قصیدے کہنا۔ قَصْد: کوشش، ارادہ، مقصد، عزم، نصب العین، منزل مقصود، مطمح نظر، کفایت شعاری، بچت۔ قَصْدًا و عن قَصْد: دانستہ، جان بوجھ کر، ارادتاً، قصداً، عمداً، خاص مقصد سے، ارادہ سے، مطلب سے، سوچ بچار کر، دیدہ دانستہ۔ عن غیر قَصْدٍ: بلا ارادہ، غیر ارادی طور پر۔ حُسن القَصْد: نیک ارادہ۔ سوءُ القَصْد: برا ارادہ، بری نیت۔ هو قَصْدُكَ (و قصدَكَ): وہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے مقابل ہے۔ قَصْدِی: قصداً کہا یا کیا ہوا، مقصود۔ قُصَادَ: کے سامنے، آگے، بالمقابل۔ قَصِید: آرزو کیا ہوا، تمنا کیا ہوا، مرغوب، خواہش کیا ہوا، مطلوب، ارادہ کیا ہوا، بے نقص (نظم وغیرہ) قصیدہ۔ بیتُ القصید: قصیدہ کی ضروری اور بڑی بیت یا بند (گیت کا) بول، اہم نقطہ، بڑا حصہ، روح، جوہر، مغز، لب لباب، نچوڑ، خلاصہ، درجہ، کمال، عروج، نقطہ، عروج، منتہائے کمال، صحیح بات، باقی باتوں میں نمایاں ترین۔ اَقْصَد: سیدھا تر، سیدھا ترین۔ سیِّءُ المقاصد: بدخواہ، بد باطن، بد اندیش، حاسد۔ اقتصاد: بچت، کفایت شعاری، کانٹ چھانٹ، تخفیف، کفایت، معاشیات۔ علم الاقتصاد و علم الاقتصاد السیاسی: معاشیات (علم)، قومی معیشت، اقتصاداً فی الوقت: وقت بچانے کے لئے۔ اقتصادی: معاشی، کفایت شعار، کم خرچ، سودمند، ماہر معاشیات، قومی معیشت کا ماہر۔ الاقتصادیات: معاشیات۔ قاصد: سیدھا (راستہ) آرام دہ، ہموار خوشگوار اور مختصر (سفر)۔ قاصِدٌ رسولی: داعیانہ نمائندہ۔ قصادة رسولية: پاپائی سفارت خانہ۔ مَقْصُودٌ: ارادہ کیا ہوا، مطلوب، مدنظر رکھا ہوا، دانستہ، جان بوجھ کر، با مقصد، ارادتاً، دیدہ دانستہ، قصد کیا ہوا، چاہا ہوا۔

ⓒ قَصْدِیر: ٹین۔

قصر: ۱۔ قَصَرَ ـُ قُصُورًا الشیئُ: ناقص ہونا، ستا ہونا۔ — عنه الغضبُ او الوجع: کے غضب یا درد میں سکون ہونا۔ — قَصْرًا قیدَ البعیر: اونٹ کے پاؤں کی رسی کو تنگ کرنا۔ - الصلوٰة و من الصلوٰة: نماز کا ایک حصہ چھوڑ دینا کہا جاتا ہے قَصَرتُ بکذا نفسُك: جبکہ تم تھوڑی چیز کو مانگو۔ —— ـِ قَصْرًا الشیئَ: کو چھوٹا کرنا قَصُرَ ـُ قِصَرًا و قِصَرًا و قَصَارَةً: ٹھگنا ہونا قَصَّرا الشیَٔ: کو چھوٹا کرنا۔ — من شعرِہ: بال چھانٹنا۔ - فی العطیة: کو کم کرنا۔ - عنه الوجع او الغضبُ: کے درد یا غصہ میں سکون ہونا۔ اَقْصَرَهُ: کو چھوٹا کرنا، کا طول کم کرنا۔ الکلام: مختصر کلام کرنا۔ من الصلوٰة: نماز میں سے کچھ چھوڑ دینا۔ - ت المرأةُ: چھوٹے چھوٹے بچے جننا۔ تقَاصَرَ الرجُلُ: کوتاہی ظاہر کرنا۔ - الظلُ: سایہ کا سمٹنا۔ - تْ نفسُهُ: بتکلف چھوٹا بننا۔ اِستَقْصَرَهُ: کو کوتاہ یا کوتاہی کرنے والا سمجھنا۔ کلأ قاصِرٌ: گھاس کہ اس کے اور پانی کے درمیان میں کتے کی آواز کے پہنچنے کا فاصلہ ہو۔ القِصَرُ: چھوٹا پن۔ القِصَارةُ: پست قد عورت، کہا جاتا ہے۔ هُوَابنُ عَمِّی قَصْرَةً اَو قُصْرَةً: وہ میرا قریبی چچازاد بھائی ہے۔ القَصِیرُ ج قِصَار و قُصَراءُ مونث قَصِیرَةٌ ج قِصَارٌ و قَصِیراتٌ و قَصَائِرُ: چھوٹا ٹھگنا۔ — قَصِیرُ العِلْمِ: کم علم۔ - الاَحادِیثُ القِصَارُ: جامع اور مفید باتیں، کہا جاتا ہے هُوَابنُ عَمِّی قَصِیرَةً او مَقْصُورَةً: وہ میرا قریبی چچازاد بھائی ہے۔ الاَقْصَرُ ج اَقاصِرُ و الاَقْصَرُونَ مونث قُصْرٰی ج قُصَرُ: اسم تفضیل۔ زیادہ چھوٹا۔

۲۔ قَصَرَ ـُ قُصُورًا الطعامُ: بڑھنا۔ - اللَحمُ: مہنگا ہونا۔ القَصْرُ ج قُصُورٌ محل۔ قَصْرُ المَجْدِ: مجد و شرافت کی کان، کہا جاتا ہے هُوَ جَارِیْ مُقَاصِرِیْ: یعنی اس کا محل میرے محل کے مقابل ہے۔

۳۔ قَصَرَ ـُ قُصُورًا عن الشیئ: سے رکنا اور اسے بے بسی سے چھوڑ دینا۔ — السهمُ عن الهَدَف: تیر کا نشانہ پر نہ پہنچنا۔ — ت بنا البقعةُ: مقصود کو نہ پہنچانا۔ قَصَرَ ـُ قَصْرًا الشیئَ: کو روکنا۔ - السترَ: پردہ لٹکانا۔ — به اللیلُ: کو روکنا۔ — الدارَ: گھر کو دیواروں سے محفوظ کرنا۔ قَصَرَ ـِ قَصَرًا الظلامُ: مختلط ہونا۔ - الشیئَ علی کذا: کو پر منحصر کرنا۔ نَفْسَهٗ علی کذا: دوسری طرف نگاہ نہ اٹھانا۔ — ہٗ علی الامر: کو کسی طرف لوٹانا۔ — ہٗ فی بیته: کو اس کے گھر میں قید کرنا۔ — علی نفسه ناقةً: اونٹنی کو دودھ پینے کے لئے اپنے لئے خاص کر لینا۔ ایسی اونٹنی کو مقصورہ کہتے ہیں۔ قَصَّرَ فی الامر: میں کوتاہی کرنا۔ — عن الامر: سے باوجود قدرت رکھنے کے رکنا۔ - عن الشیئ: کو طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے چھوڑنا۔ — الرجُلُ او الفرسُ فی اصطلاح العامة: چلنے میں تھکنا، کمزور ہونا۔ اَقْصَرَ المطرُ: بارش رک جانا۔ - فلانٌ: شام کے وقت داخل ہونا۔ و تَقَاصَرَ عن الامر: سے باوجود قدرت کے باز رہنا۔ تَقَصَّرَ بفلان: کے ساتھ مشغول ہونا۔ اِقْتَصَرَ علی کذا: پر اکتفا کرنا۔ اِستَقْصَرَهُ: کو کوتاہ یا کوتاہی کرنے والا سمجھنا۔ القَاصِرَةُ، القَاصِرُ کا مونث۔ اِمْرَأَة قَاصِرَةُ الطَّرْفِ: عورت جو اپنی نگاہ کو صرف اپنے شوہر پر ہی مرکوز رکھے۔ القَصْرُ: کوتاہی، کوشش، غایت، کہا جاتا ہے۔ قَصْرُكَ اَنْ تَفْعَلَ کَذَا: تمہاری انتہائی طاقت یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ القَصَرُ: کاہلی، سستی، کوتاہی۔ القَصَارُ: تقصیر، سستی۔ و القُصَارُ و القُصَارَیٰ: کوشش کرنا، غایت کہا جاتا ہے۔ قُصَارُكَ او قَصَارُكَ او قُصَارَاكَ اَنْ تَفعَلَ کَذَا: تمہاری انتہائی طاقت یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ القُصَارَةُ: کشادہ، اور محفوظ مکان۔ القُصْرَةُ: تقصیر۔ القَصَرَةُ: کاہلی سستی۔ القُصْرٰی: آخر امر۔ القَصَّارُ: اسم مبالغہ۔ القُصُورُ: کوتاہی، نقص القَصُورَةُ و القَصِیرَةُ من النساء: وہ عورت جس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ ہو۔ المَقْصِرُ و المَقْصَرُ و المَقْصَرَةُ ج مَقَاصِیرُ و مَقَاصِرُ: شام۔ المَقْصُورَةُ ج

مَقَاصِيرُ: محفوظ کشادہ مکان۔ دلہن کا مزین کمرہ۔ ـ من النساء: جس عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ ہو۔ مَقْصُورَةُ الدَّارِ: کمرہ۔

۴۔ قَصِرَ ـَ قَصَرًا: خشک گردن والا ہونا، کی گردن میں درد ہونا صفت قَصِرٌ و اَقْصَرُ مونث قَصِرَةٌ و قَصْرَاءُ۔ اِقْتَصَرَهُ: کی گردن کی جڑ پکڑنا۔ القَصَرَةُ ج قَصَرٌ و اَقْصَارٌ و قَصَرَاتٌ: گردن کی موٹی جڑ۔ القُصْرَيَانِ (ع ا) پسلی کی دو ہڈیاں جو گردن کے قریب ہیں۔ التِقْصَارُ و التِقْصَارَةُ ج مَقَاصِيرُ: ہار، مالا۔

۵۔ قَصَرَ الثوبَ کپڑے کو پٹکنا اور سفید کرنا۔ القَصَّارُ: دھوبی (فارسیہ) القَصَرَةُ ج قَصَرٌ و اَقْصَارٌ و قَصَرَاتٌ: لکڑی کا ٹکڑا۔ القِصَارَةُ: دھوبی کا پیشہ۔ المَقْصَرُ و المِقْصَرَةُ: دھوبی کا تختہ۔ المَقْصُورُ: روئی کا سفید باریک کپڑا۔

۶۔ القَصْرُ ج قُصُورٌ: بہت لکڑی۔ ماءٌ قاصِرٌ: گھاس سے دور پانی (اور بقول بعض) ٹھنڈا پانی۔ القَصَرُ و القِصْرَى: غلہ کا کوڑا کرکٹ جو چھلنی میں باقی رہ جائے، گاہنے کے بعد خوشہ میں جو دانہ باقی رہ جائے۔ القَصَرَةُ ج قَصَرٌ و اَقْصَارٌ و قَصَرَاتٌ: غلہ کا کوڑا کرکٹ جو چھنی میں باقی رہ جائے۔ گاہنے کے بعد خوشہ میں جو دانہ رہ جائے، پرندہ کی دم کی جڑ۔ القُصَارَةُ بمعنی القَصَر ـ قُصَارَةُ الارضِ: زمین کا زرخیز ٹکڑا۔ القِصْرِيُّ بمعنی القَصَر: ـ و القُصْرِيُّ (ع) سانپ کی ایک قسم۔ القَصْرِيُّ و القِصْرِيُّ: گاہنے کے بعد خوشہ میں جو دانہ باقی رہ جائے کہا جاتا ہے رَجُلٌ قُصْرِيٌّ یعنی خاص آدمی اور اس کا مقابل عُمِّيٌّ یعنی عام ہے۔ القَصْرِيَّةُ: وہ برتن جس میں جسم کے فضلات ڈالتے ہیں (عامیہ)۔ سَيْلٌ قَصِيرٌ: سیلاب جو وادی کو نہ بھرے۔ قَيْصَرُ ج قَيَاصِرَةُ: شاہان روم کا لقب۔ الاُقَيْصِرُ: بعض عرب کے ایک بت کا نام۔ المَقَاصِرُ واحد مَقْصُورٌ: درخت کی جڑیں۔ مَقَاصِيرُ الطُّرُقِ: راستے کے اطراف واحد مَقْصَرَةٌ:

○ قَصَرَ ـُ قَصْرًا قِصَارَةً ہ کو سفید کرنا، کا رنگ اڑانا۔ قَصَّرَ ہ کو چھوٹا کرنا، کی تلخیص کرنا۔ ـ عن: (حدف) تک نہ پہنچ سکنا، کا نااہل ہونا، کے لئے ناکافی ہونا، کو نہ کرسکنا، کو انجام دینے، حاصل کرنے یا تک پہنچنے میں ناکام ہونا، کے برابر نہ ہونا، کے قابل نہ ہونا، سے نبٹنے کے قابل نہ ہونا، سے نبٹنے کے ناقابل ہونا۔ ـ ناکافی ہونا، کم مرتبہ ہونا۔ ـ فی: میں بے پرواہ ہونا، فرض ناشناس ہونا، کوتاہی کرنا، پیچھے رہ جانا، غافل ہونا، کو نظر انداز کرنا۔ ـ عن: سے احتراز کرنا۔ لم يُقَصِّرْ فی: اس نے اس میں کوئی دریغ نہ کیا، اس نے کوئی کام کئے بغیر نہیں چھوڑا، وہ اس میں ناکام نہیں رہا۔ تقاصر سکڑنا، سمٹنا، گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ جانا۔ ـ عن: کا نااہل ہونا، سے باز رہنا۔ اِقْتَصَرَ علی: تک محدود رہنا، پر صابر شاکر یا قانع ہونا۔ اسْتَقْصَرَ ہ کو کم پانا، ناکافی یا ناقص سمجھنا۔ قَصْرُكَ ان تفعل هذا: زیادہ سے زیادہ جو تم سرانجام دینے کی امید کرسکتے ہو وہ یہ کرسکنا ہے، تمہیں یہ کرنے تک محدود رہنا چاہئے، قصارك ان تفعل هذا اور قصاراك ان تفعل هذا بھی انہیں معانی میں ہے۔ قَصَّار سفید کرنے والا، رنگ اڑانے والا۔ قِصَارة سفید کرنے یا رنگ اڑانے والے کا پیشہ۔ بَذَلَ قُصَارَى الجهد یا بذل قصاراه ل۔ کے لئے ہر سمجھ میں آنے والی کوشش کرنا، ہر طرح کی کوشش کرنا، اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا کر بھی کوشش کرنا، پورا زور لگانا، مقدور بھر کوشش کرنا، اپنے بس میں جو کچھ ہو اس سے جدوجہد کرنا، پوری کوشش کرنا۔ قُصَارَى الامر اور قُصَارَى القول: الغرض، المختصر، قصہ کوتاہ، قصہ مختصر۔ اَقْصَر: زیادہ چھوٹا، زیادہ کم (وغیرہ)۔ الاقصر: بالائی مصر کے ایک شہر کا نام جسے انگریزی میں Luxor کہا جاتا ہے۔ قصير الباع: کمزور، نااہل، ناقابل، بے بس، بے اختیار، بے چارہ، از حد کفایت شعار، بخیل، کنجوس۔ قصير اليد: بمعنی بالا۔ قاصر عن: کا نااہل، کو کرنے کے ناقابل، تک محدود، کے لئے مخصوص، لازم (گرامر) جمع قُصَّر قانونی طور پر نابالغ۔ قاصِرةُ الطرف: پاکدامن، متین، حیادار (عورت) مقصورة الطرف: بمعنی بالا۔ مَقْصُورة جمع مقصورات و مقاصير: محل، حجرہ (ٹرین کا) ڈبہ، کمرہ، مسجد میں محراب کے قریب نشست جو حاکم کے لئے مخصوص ہوتی ہے، سینما یا تھیٹر کا بکس، مسجد کا وہ حصہ جس میں اجتماعی نماز ادا کی جائے (مجرم کا) کٹہرا، گرجا میں مخصوص عبادات کے لئے وقف حصہ۔ مُقَصِّر: کام میں سست، بے پرواہ، غافل، غفلت شعار، سہل انگار۔ مُقْتَصِر علی: تک محدود مُقْتَصَر: مختصر، موجز، جامع، تلخیص مُلَخَّص

قصع ا۔ قَصَعَ ـَ قَصْعًا القملةَ بظفره: جوں کو ناخن سے مار ڈالنا۔ ـ ت الرحی الحبَّ: چکی کا دانہ کو پیسنا۔ ـ الغلامَ او هامتَهُ: لڑکے کے سر پر تھپڑ مارنا۔ ـ الرجُلَ: کو ذلیل کرنا، حقیر کرنا۔ قَصِعَ ـَ قَصَعًا و قَصُعَ ـُ قَصَاعَةً الغلامُ: لڑکے کا جوان ہونے میں تاخیر کرنا۔ ـ للغلامِ القَصِعُ: مونث قَصِعَةٌ والقَصِيعُ: مونث قَصِيعَةٌ و قَصِيعٌ و المَقْصُوعُ مونث مَقْصُوعَةٌ: دیر سے جوان ہونے والا لڑکا۔ ـ المُقْصَعُ من السيوف: شمشیر براں۔

۲۔ قَصَعَ ـَ قَصْعًا: پانی کے گھونٹ نگلنا۔ ـ و قَصَعَ الماءُ عطشَهُ: پانی کا کی پیاس بجھانا۔

۳۔ قَصَعَ ـَ قَصْعًا الجرحُ بالدم: زخم کا خون سے بھرنا۔ ـ ت الناقةُ بجرتها: جگالی کو پیٹ میں لوٹا دینا بقول بعض جگالی کو نکالنا اور اس سے منہ بھرنا کہا جاتا ہے۔ قَصَعَ الشيطانُ فی قفاهُ: غضبناک ہوا اور بد خلق ہوا۔ قَصَّعَ الجرحُ بالدم: زخم کا خون سے بھرنا۔ ـ الضبُّ: گوہ کا بل کے منہ کو بند کر دینا۔ ـ ت الناقةُ بجَرَّتها: اونٹنی کا جگالی کو لوٹا دینا۔ ـ الزرعُ من الارض: کھیتی کا زمین سے اُگنا۔ کہا جاتا ہے: قَصَّعَ الشيطان فی قفاه: وہ غضبناک ہوا، بد خلق ہوا۔ تَقَصَّعَ الجرح بالدم: زخم کا خون سے بھرنا۔ ـ اليربوعُ التراب: جنگلی چوہے کا سوراخ سے مٹی نکالنا۔ القُصَعَةُ ج قُصَعٌ و القُصَعَةُ و القَصْعَاءُ و القُصَاعَةُ و القَاصِعَاءُ ج قَوَاصِعُ و القُصَيْعَاءُ: جنگلی چوہے کا بل۔

۴۔ قَصَعَ ـَ قَصْعًا البيتَ: گھر میں رہنا۔ قَصَّعَ البيتَ: گھر میں رہنا۔ ـ الرجُلُ فی ثوبه: کپڑے میں لپٹنا۔ تَقَصَّعَ البيتَ: گھر میں رہنا۔

۵۔ القَصْعَةُ ج قِصَعٌ و قِصَاعٌ و قَصَعَاتٌ: پیالہ۔ القَصَّاعُ: پیالے بنانے والا۔

○ قَصْعَة جمع قَصَعَات و قِصَع و قِصَاع: (لکڑی یا تانبے کا) بڑا پیالہ، کیتلی۔

قصف ا۔ قَصَفَ ـِ قَصْفًا الشیءَ: کو توڑنا۔ ـ الشیءُ: ٹوٹنا۔ قَصِفَ ـَ قَصَفًا النبتُ: پودے کا لمبے ہونے کی وجہ سے جھک پڑنا۔ ـ العودُ: کمزور و ضعیف ہونا صفت اَقْصَفُ و قَصِفٌ۔ ـ الرجُلُ: کمزور و ضعیف ہونا۔ ـ الرمحُ: نیزہ کا عرض میں پھٹ جانا۔ ـ النابُ: دانت کا آدھا ٹوٹنا۔ ـ ت القناةُ: بغیر جدا ہوئے ٹوٹنا۔ قَصَّفَ ہ کو توڑ دینا۔ اَقْصَفَ العودُ: نرم و باریک ہونا۔ ـ القومُ عنه: کو عاجز ہو کر چھوڑ دینا۔ تَقَصَّفَ: ٹوٹنا۔ ـ عليه القومُ: کسی کے پاس قوم کا اکٹھا ہونا۔ ـ فی مشيه او فی رقصه: چلتے یا ناچتے ہوئے پاؤں کا مڑ کر ٹوٹنے کے قریب ہونا۔ تقاصف القومُ: اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا۔ اِنْقَصَفَ: ٹوٹنا۔ ـ السيلُ: سیلاب کا رواں ہونا۔ ـ القوم عليه: کے

پاس پے در پے آنا۔ ـ القومُ عنه: کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا۔ القاصِفُ (فا) ریح فاصف او قاصفة: بہت تیز ہوا۔ القَصِفُ: دو برابر حصوں میں ٹوٹا ہوا۔ مدد سے جلد عاجز ہونے والا مرد۔ ـــ القَصِفُ البَطْنِ: بھوک کی تاب نہ رکھنے والا۔ القَصْفَةُ ج قَصْفٌ و قُصْفَانٌ: ٹڈ بھیڑ پر گھوڑوں کا سر توڑ زور، سیڑھی کا پایہ ـ من القوم: بھیڑ، ہجوم۔ القَصِيْفُ: دو برابر حصوں میں ٹوٹا ہوا، درخت کا ٹوٹا ہوا حصہ۔ الاَقْصَفُ: وہ شخص جس کا دانت آدھے حصے سے ٹوٹ جائے۔

۲۔ قَصَفَ ـُ قَصْفًا و قُصُوفًا: کھانے پینے اور کھیل کود میں زیادہ مصروف رہنا۔ قَصَفَ ـِ قَصْفًا و قَصِيْفًا العیرُ: اونٹ کا دانت پیسنا اور بڑبڑانا۔ ـ الرعدُ: بادل کا زور سے گرجنا۔ قَصَفَ قصفا ہ بمدافعه پر بم پھینکنا۔ اس معنی میں قصفه بقذائف مدافعه بھی کہا جاتا ہے۔ تَقَصَّفَ القومُ: قوم کا دھمکی یا جھگڑے میں شور مچانا۔ رَعْدٌ قَاصِفٌ: بہت گرجنے والا بادل۔ القَصْفُ: شور و غل، کھیل کود کا اعلان، کھیل کود کھانے پینے میں مشغولیت، باجہ کی آواز۔ القَصَفَةُ: اونٹ کے دانتوں کی آواز اور بڑبڑاہٹ۔ القُصُوفُ: اونٹ کی بڑبڑاہٹ اور دانتوں کی آواز، کھیل کود اور کھانے پینے میں مشغولیت۔ المَقْصَفُ ج مَقَاصِفُ: کھانے پینے اور کھیل کود کی جگہ۔

◌ قَصَفَ ـِ قَصْفًا ہ: توڑنا، پاش پاش کرنا، ـ ہ کو دق کرنا، ستانا، پریشان کرنا، سخت دبانا، پچھاڑنا۔ ـــ ہ پر بم پھینکنا، بمباری کرنا۔ ـــ (توپ کا) گرجنا، دھاڑنا، (بادل، بجلی کا) گرجنا، کڑکنا، گڑگڑانا، گونجنا۔ ـ ـُ قَصْفًا و قُصُوفًا: لطف اندوز ہونا، کھل کھیلنا، داد عیش دینا، امارت کی زندگی بسر کرنا۔ قَصِفَ ـَ قَصَفًا: ٹوٹنا، کمزور ہونا، نازک ہونا۔ جلد ٹوٹ جانے والا ہونا، پھونک ہونا، بے لوچ ہونا۔ تَقَصَّفَ و اِنْقَصَفَ: ٹوٹنا۔ ٹوٹا ہوا ہونا، ٹوٹ جانا۔ قَصْفٌ (توپ کی) گرج دھاڑ، خوشی کا ہنگامہ، رنگ رلیاں، بلانوشی، عیش کوشی، سیہ مستی، رندی۔ قَصِفٌ: نازک، ٹوٹا ہوا، جلد ٹوٹ جانے والا۔ قُصُوف: خوشی کا ہنگامہ، رنگ رلیاں، بلانوشی، عیش کوشی، سیہ مستی، رندی۔ مَقْصَف جمع مَقَاصِف: طعام گاہ، کینٹین، رقص گاہ (کاسینو)۔ ہوٹل کی شراب گاہ (بار) بوفے (Buffet)۔

قصل ا۔ قَصَلَ ـِ قَصْلًا الشیئَ: کو کاٹنا، صفت فاعلی قَاصِلٌ اور صفت مفعولی قَصِيْلٌ و مَقْصُوْلٌ۔ ـــ عنقَهُ: کی گردن پر مارنا۔ ـ الدابةَ و علیها: جانور کو کٹے ہوئے سبز جو کا چارہ دینا۔ تَقَصَّلَ و انْقَصَلَ: کٹنا۔ اِقْتَصَلَ الشیئَ: کو کاٹنا۔ الشیئُ: کٹنا۔ سَيْفٌ قَاصِلٌ: شمشیر براں۔ القَصْلَةُ: کھیتی کا کٹا ہوا حصہ۔ ـ و القِصْلَةُ: اونٹوں کا گلہ۔ القَصَّالُ (ح) شیر۔ سَيْفٌ قَصَّالٌ: شمشیر براں۔ القَصِيْلُ ج قُصْلَانٌ: سبز جو جو کاٹ کر جانوروں کو چارہ کے طور پر دیا جائے، جماعت۔ سَيْفٌ مِقْصَلٌ: شمشیر براں۔ لِسَانٌ مِقْصَلٌ: تیز زبان۔ المِقْصَلَةُ: مارنے کا ایک آلہ جس میں چھری ہوتی ہے اور مجرم کے سر پر گرتی ہے۔ سر قلم کرنے کی مشین۔

۲۔ قَصَلَ ـِ قَصْلًا الحنطة: گندم گاہنا القَصَلُ (مص) و القَصَلُ و القُصَالَةُ: گندم کا ردی حصہ جو پھینک دیا جائے یا دوبارہ گاہا جائے۔ القِصَلُ بمعنی القَصَلُ مونث قِصْلَةٌ: بے خیر بے وقوف، کمزور۔ کمینہ

۳۔ اِقْصَالَّ به: پر قبضہ کرنا۔

۴۔ اِقْصَالَّ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔

◌ قَصَل: بھوسی، چوکر، بھوسا، اناج کا چھلکا، اناج یا گھاس کا ریشہ قَصَلَة: ڈنٹھل، ڈنڈی۔ قَصِيل: جو۔ قَصَّال و مِقْصَل: تیز، قاطع، تیز نوکدار۔ مِقْصَلَة: سر قلم کرنے کی مشین۔ قَاصِل: تیز، قاطع۔

قصم ا۔ قَصَمَ ـِ قَصْمًا الشیئَ: کو توڑنا۔ ـــ الرجُلَ: کو ہلاک کرنا۔ ـ فلانٌ: سفر توڑ دینا اور واپس آنا، کہا جاتا ہے۔ قَصَمَ اللّٰهُ ظَهْرَ الظَّالِمِ: اللہ ظالم کی پیٹھ کو توڑ دے یعنی اس پر کوئی مصیبت نازل کرے اور کہا جاتا ہے۔ قَصَمَ اللّٰهُ عُمْرَ الکَافِرِ: اللہ نے کافر کی زندگی ختم کر دی۔ قَصِمَ ـَ قَصَمًا ت سِنُّهُ: کے اگلے دانت کا نصف سے ٹوٹنا۔ تَقَصَّمَ و اِنْقَصَمَ: ٹوٹنا، کہا جاتا ہے۔ نَزَلَتْ بِهِمْ قَاصِمَةُ الظَّهْرِ: یعنی ان پر ہلاکت واقع ہوئی۔ القُصَمُ: ہر چیز کو توڑ دینے والا۔ القَصَمُ واحد قَصَمَةٌ: اگلے دانت کا نصف سے ٹوٹنا، نڈی کے انڈے۔ القَصِمُ: جلدی ٹوٹنے والا۔ القُصْمَةُ و القِصْمَةُ: ٹکڑا۔ القَصْمَةُ: قصم کا اسم مرہ، ٹکڑا، سیڑھی کا پایہ۔ القَصِيمُ: جلد ٹوٹنے والا۔ القَصِيْمَةُ ج قَصِيمٌ و قُصُمٌ و قَصَائِمُ: القَصِيْمُ کی مونث، ریتلی زمین جس میں کثرت سے غضا درخت ہوں کہا جاتا ہے۔ ذهبوا یحطبون فی القصیم: وہ لوگ جا کر غضا درخت کی لکڑیوں کو چن رہے تھے۔ القَيْصُوْمُ (ن): ایک خوشبودار پودا جس کی دوائی بنائی جاتی ہے۔ الاَقْصَمُ مونث قَصْمَاءُ ج قُصْمٌ: وہ شخص جس کا اگلا نصف دانت ٹوٹا ہوا ہو۔ القَصْمَاءُ من المعز: بکری جس کا سینگ ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا ہو۔

۲۔ قَصْمَلَ الرجُلُ: چلنے میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔ ـ ہٗ: کو پچھاڑنا۔ الشیئَ: کو کاٹنا۔ ـــ الطعام: کھانا سب کھا جانا۔ ـــ و تَقَصْمَلَ الفصيلُ: اونٹ کے بچہ کا قُصْمل کی بیماری والا ہونا۔ القُصْمُلُ: ایک بیماری جو اونٹوں کے بچوں کو ہوتی ہے جس سے وہ مر جاتے ہیں۔ القَصْمَلُ: مضبوط مرد۔ القِصْمِلُ: مضبوط مرد (ح) شیر، کہا جاتا ہے۔ التَقَمَهُ القَصْمَلی: یعنی بہت حرص سے کھایا۔

◌ قصم ـِ قَصْمًا ہ: توڑنا، پاش پاش کرنا۔ قَصَمَ ظَهْرَهُ: کی کمر توڑنا یعنی کسی شخص کے لئے جان لیوا ضرب ہونا۔ تَقَصَّمَ: ٹوٹنا، ٹوٹا ہوا ہونا، ٹوٹ جانا۔ اِنْقَصَمَ بمعنی تَقَصَّمَ۔ قَصِم: آسانی سے ٹوٹا ہوا، پھوک، بے لوچ، جلدی ٹوٹ جانے والا۔ قَاصِم جمع قَوَاصِم: توڑنے والا۔ قَاصِمَةُ الظهر: جان لیوا ضرب، مصیبت، بلائے ناگہانی۔ ضَرَبَاتٌ قَوَاصِم: جان لیوا ضربیں۔

قصو ا۔ قَصَا ـُ قَصْوًا و قُصُوًّا و قَصًا و قَصَاءً و قَصِيَ يَقْصٰى قَصًا المکانُ: جگہ کا دور ہونا۔ ـ الرجُلُ عن القوم: سے علیحدگی اختیار کرنا۔ قَاصٰی مُقَاصَاةً الرجُلَ: کو دور کرنا، کہا جاتا ہے: قَاصَانِيْ فَقَصَوْتُهُ: اس نے مجھ سے دور ہونا چاہا تو میں اس سے زیادہ دور ہو گیا اور یہ افعال مغالبہ میں سے ہے۔ هَلُمَّ اُقَاصِيْكَ اَيُّنَا ابعد من الشر: آؤ تم سے مقابلہ کریں دیکھیں ہم میں سے شر سے کون بعید ہے۔ اَقْصٰى فلانًا عنه: کو سے دور کرنا۔ ـ الشیئَ: کی انتہاء پر پہنچنا کہا جاتا ہے: نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا يَبْلُغُهُ البَصَرُ: ہم ایسی جگہ میں اترے جس کی انتہاء حد بصر سے خارج ہے۔ تَقَصّٰى تَقَصِّيًا: دور ہونا۔ ـــ المسالة و فیها: مسئلہ کی تہہ تک پہنچنا، تَقَصَّاهُمْ: بعید لوگوں میں سے ایک ایک کو بلانا۔ اِسْتَقْصٰى المسالةَ و فیها: مسئلہ کی تہہ تک پہنچنا۔ القَاصِيُ (فا) ج قَاصُوْنَ و اَقْصَاءُ: دور۔ القَاصِيَةُ: القَاصِيُ کا مونث کنارہ۔ ـــ من الشاء: ریوڑ سے علیحدہ ہونے والی بکری۔ نَعْجَةٌ قَاصِيَةٌ: بوڑھی بھیڑ۔ القَصَا (مص) دور کا نسب، کنارہ، کہا جاتا ہے: حُطْنِي الْقَصَا: یعنی مجھ سے دور ہو جا۔ ذَهَبْتُ قَصَاهُ: میں اس کی طرف چلا۔ ـ و القَصَاءُ: گھر کے سامنے کا صحن۔ القَصِيُّ ج اَقْصَاءٌ مونث قَصِيَّةٌ ج قَصَايَا: دور، کہا جاتا ہے: رَمَيْتَ المَرْمَى القَصِيَّ: یعنی تم گمان اور تاویل میں بہت دور چلے

گئے۔ القَصِيَّةُ: اصیل اونٹنی، بد اصل اونٹنی۔ الاَقْصٰی ج اَقَاصٍ مونث قُصْوٰی و قُصْيَا: اسم تفضیل، زیادہ دور۔ القُصْوٰی و القُصْيَا: وادی کا کنارہ، دور کی حد۔

۲۔ قَصَا ـُ قَصْوًا الناقةَ او الشاةَ: اونٹنی یا بکری کے کان کا تھوڑا سا کنارہ کاٹ دینا۔ قَصّٰی تَقْصِيَةً الناقةَ: اونٹنی کے کان کا تھوڑا سا کنارہ کاٹ دینا۔ الاظفارَ: ناخن تراشنا۔ القَصَا: اونٹنی یا بکرے کے کان کے کنارہ کو تھوڑا سا کاٹنا۔ القَصْوَةُ: کان کے اوپر کے حصہ پر داغ۔ الاَقْصٰی مونث قَصْوَاءُ والمَقْصُوُّ والمَقْصِيُّ و المُقَصّٰی من الجمال: اونٹ جس کے کان کا کنارا ذرا سا کٹا ہوا ہو۔ شَاةٌ مَقْصُوَّةٌ و مُقَصَّاةٌ: بکری جس کے کان کا کنارہ ذرا سا کٹا ہوا ہو۔

○ قصا ـُ قُصُوًّا و قُصُوًّا و قَصَاءً و قَصِيَ ـَ قَصًا و قَصًی عن: سے دور ہونا، دور کیا ہوا ہونا، بڑے فاصلہ پر ہونا۔ ــــ: دور ہونا۔ ــــ عن: سے دور چلا جانا۔ اَقْصٰی ہ عن: کو سے دور لیجانا، دور بھیجنا۔ ــــ ہ عن: کو سے ہٹانا، دور کرنا، گھسیٹ کر دور کرنا۔ ــــ ہ عن الخدمة: کو کسی نوکری، ملازمت یا کام سے برخواست کرنا۔ ــــ ہ: کی انتہائی حد تک پہنچنا۔ لا يُقْصِيهِ البَصَرُ: غیر مرئی، نظروں سے اوجھل، نہ دکھائی دینے والا۔ تَقَصّٰی عن: سے دور چلے جانا۔ ــــ ہ: (کسی مسئلہ وغیرہ) کی تہہ کو پہنچنا، کی تحقیقات کرنا، کی تفتیش کرنا، کا مطالعہ کرنا، جائزہ لینا، کی تہہ تک جانا، کو کسی نتیجہ تک پہنچا کر پیچھا چھوڑنا، کا آخر تک پیچھا کرنا، چھو کر جانچنا۔ اِسْتَقْصٰی ہ: کسی مسئلہ وغیرہ کی تحقیقات کرنا، کی گہرائی تک پہنچنا، کا جائزہ لینا، مطالعہ کرنا، کی تفتیش کرنا، کی جڑ تک جانا۔ ــــ عن: کے بارے میں تحقیقات کرنا۔ قَصًا و قَصَاء: دوری فاصلہ۔ قَصِي جمع اقصاء: دور، بعید، دور کا۔ اَقْصٰی مونث قُصْوٰی جمع اَقَاصٍ: زیادہ دور، زیادہ بعید، زیادہ فاصلہ پر، انتہائی دور، انتہائی بعید، دور ترین، زیادہ سے زیادہ، دور ترین حصہ، حد، انتہاء، انجام۔ المسجد الاَقْصٰی: یروشلم میں ایک مسجد کا نام۔ الشرق الاقصی: مشرق بعید۔ المغرب الاقصی: مراکش۔ الغاية القُصْوٰی من: زیادہ سے زیادہ۔ اَقَاصي الارض: زمین کے بعید ترین خطے۔ عند الضرورة القُصْوٰی: سخت ضرورت کی صورت میں۔ بدترین صورت حال میں بھی۔ الی اَقْصٰی حَدّ: انتہائی حد تک، حتی المقدور، پوری طرح، زیادہ سے زیادہ، جہاں تک ممکن ہو۔ من اَقْصاه اِلی اَقْصاه یا من اَدْناه اِلی اقصاه: ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اول سے آخر تک، (کے) ہر حصہ میں (میں) ہر جگہ، سراسر، ہر چیز بلا استثناء۔ تَقَصٍّ: مکمل تحقیق، پوری چھان بین، تفصیلی تحقیقات۔ استقصاء: بمعنی بالا۔ استقصاء عن: کے بارے میں پوچھ گچھ۔ قاصٍ جمع قاصُون و اَقْصَاء: دور، بعید، بہت دور۔ القاصي و الداني: دور اور قریب کا، ہر شخص، سب لوگ۔ في القاصية و الدانية: نزدیک اور دور۔

قضّ: ۱۔ قَضَّ ـُ قَضًّا عليهم الخيلَ: کسی جماعت پر گھوڑوں کو بھیجنا اور متفرق کرنا۔ الحائطَ: دیوار کو زور سے گرانا۔ ــــ الوتدَ: کھونٹی اکھیڑنا۔ اَقَضَّ عليه الهمُّ: پر غم نازل ہونا۔ تَقَضَّضَ الطائرُ: پرندے کا نیچے اترنا، کہا جاتا ہے۔ تَقَضّٰی تَقَضِّيًا: دوسرے ضاد کو یاء سے بدل کر جیسا تَظَنَّنَ سے تَظَنّٰی اور بعض کا کہنا ہے کہ قَضَّ سے تفعّل کے وزن پر یاء سے بدل کر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اِنْقَضَّ الجدارُ: دیوار کا گرنا، پھٹنا۔ ــــ الطائرُ: پرندے کا نیچے اترنا۔ ــــ البازي على الصيد: شکار پر جھپٹنے کے لئے اڑان تیز کرنا۔ ــــ ت الخيلُ على القوم: پر گھوڑوں کا منتشر ہونا۔ کہا جاتا ہے قَضَضْنَا عَلَيْهِمُ الخَيْلَ فَانْقَضَّتْ عَلَيْهِم: ہم نے ان پر گھوڑے دوڑائے پس وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اِنْقَاضَّ الجدارُ: دیوار کا گرنا، پھٹنا۔ اِسْتَقَضَّ الهمَّ: غم کا زوال چاہنا۔

۲۔ قَضَّ ـِ قَضًّا الشيءَ: کو باریک کرنا۔ ــــ الطعامَ: کھانے میں کوئی خشک چیز مثلاً گڑ یا شکر ڈالنا۔ قَضَّ ـَ قَضَضًا المكانُ او الطعامُ: جگہ یا کھانے کا کنکری دار ہونا۔ قَضَّ ـِ قَضِيضًا السَّيْرُ او الوترُ: تسمہ یا تار کا چڑ چڑانا، چٹخنا۔ اَقَضَّ المكانُ او الطعامُ: بمعنی قَضَّ۔ ــــ الرجلُ: باریک امور اور خواہشات کے درپے ہونا۔ اِنْقَضَّ: ٹوٹنا۔ اِسْتَقَضَّ الطعامَ او المكانُ: کنکری دار ہونا۔ القَضُّ (مص): کنکریاں۔ ــــ و الاَقَضُّ: جس میں کنکریاں ہوں کہا جاتا ہے: جَاءَ القَوْمُ قَضُّهُمْ وقِضُّهُمْ و قَضَّهُمْ و قِضَّهُمْ و قَضِيضُهُمْ: یعنی سب آئے۔ (قَضّ کا نصب مصدر یا حال کی بناء پر اور رفع تاکید کی وجہ سے کلهم کے قائم مقام ہو کر آیا ہے۔) القَضِيضُ (مص): کنکریاں کہا جاتا ہے۔ جَاءَ القوم قَضُّهُمْ و قَضِيضُهُمْ او قَضَضُهُمْ و قَضِيضُهُمْ: یعنی سب آئے۔ القَضَّةُ قَضّ کا اسم مرہ، کنکری (القِضَاض کا واحد) بمعنی تہہ بتہہ، پتھر، چھوٹا ٹیلہ۔ اَرْضٌ قَضَّةٌ: کنکریوں والی زمین۔ القِضَّةُ ج قِضَاضٌ: چھوٹی کنکریاں۔ القَضِيضُ: چھوٹی اور باریک کنکری، جس میں کنکری ہو، کہا جاتا ہے: جَاءَ القَوْمُ قَضُّهُمْ و قَضِيضُهُمْ و قَضَّهُمْ و قَضِيضَهُمْ و بِقَضِّهِمْ و قَضِيضِهِمْ: یعنی سب کے سب آئے۔

۳۔ قَضَّ ـُ قَضًّا الشيءَ: میں سوراخ کرنا۔

۴۔ قَضَّ ـَ قَضَضًا عليه المضجعُ: پر خواب گاہ کا سخت ہونا کہا جاتا ہے۔ قَضَّ الرَّجُلُ: جبکہ نیند نہ آئے اور آسودگی نہ حاصل ہو۔ اَقَضَّ المضجعُ: خواب گاہ کا سخت ہونا، کہا جاتا ہے۔ اَقَضَّ عليه المَضْجَعُ: اس پر خواب گاہ خاک آلود ہو گئی اور سخت ہو گئی۔ ــــ اللهُ مَضْجَعَهُ: خواب گاہ کو کھردرا کرنا۔ اِسْتَقَضَّ المضجعَ: خواب گاہ کو کھردرا پانا۔ القَضَضُ: خاک جو بچھونے پر پڑ جائے۔

۵۔ القَضَّةُ و القُضَّةُ: عیب۔ القَضَّةُ: باقی ماندہ چیز۔ دھاگے کی چھوٹی انٹی۔ القِضَّةُ ج قِضَاضٌ: جنس

۶۔ قَضْقَضَ قَضْقَضَةً العظمُ: ہڈی کی ٹوٹتے وقت آواز آنا۔ ــــ الاسدُ فريستَهُ: شیر کا شکار کو توڑنا اور چبانا۔ تَقَضْقَضَ: ٹوٹنا، متفرق ہونا۔ القَضْقَاضُ و القُضَاقِضُ و القُضَاقِضُ (ح): شیر۔ القِضْقَاضُ: ہموار زمین۔

قضي: ۱۔ قَضِيَ يَقْضَى قَضًا الشيءَ: کو کھانا۔ اَقْضَاهُ: کو کھلانا۔

۲۔ قَضِيَ يَقْضَى قَضًا السقاءُ: مشک کا خراب ہونا، بدبودار ہونا۔ ــــ الثوبُ او الحبلُ: کپڑے یا رسی کا بوسیدہ ہونا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ ــــ تِ العينُ: آنکھ کا سرخ ہونا اور خراب ہونا۔ قَضِيَ قَضًا و قَضَاءَةً حسبُهُ: کا حسب تباہ ہونا کہا جاتا ہے۔ تَقَضَّى من فلان اَنْ يُزَوِّجَهُ: یعنی اس کے حسب کو ذلیل سمجھا اور نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ القَضَاةُ و القَضَاءَةُ: عیب، فساد، عار۔ القَضِيُّ: خراب، بدبودار کہا جاتا ہے۔ سِقَاءٌ قَضٍ و قِرْبَةٌ قَضِيَنَةٌ: خراب اور بدبودار مشک۔

○ اَقَضَّ مضجعَهُ یا اَقَضَّ عليه المضجعَ: کی نیند اڑا دینا۔ اِنْقَضَّ: اترنا، جھپٹا مارنا، غوطہ مارنا۔ ــــ على: پر (بجلی) گرنا۔ پر جھپٹا مارنا، پر گرنا، پر حملہ کرنے کے لئے جھپٹنا، پر حملہ کرنا۔ ٹوٹنا، میں دراڑ پڑنا، بال آنا، گرنا، کے گرنے کا خطرہ پیدا ہونا۔ قَضّ: سنگریزے، کنکریاں، بجری۔ جاء القوم قَضُّهم و قَضِيضُهم: سب لوگ آئے۔ قَضَّة: سنگریزے،

کنکریاں، بجری۔ قَضِیض: سنگریزے، کنکریاں، بجری۔ جاء القوم قضیضهم او بقضیضهم: سب لوگ آئے۔ اِنقضاض: جھپٹ، جھپٹنا، ٹوٹ پڑنا، سخت حملہ مِدفَعُ الانقضاض جمع مَدافع: خودو کھیل توپ۔ طائرۃُ الانقضاض: خوطہ خور طیارہ، طائرۃ مُنقضّۃ: خوطہ خور طیارہ۔

قضب: ا۔ قَضَبَ ــــ قَضْبًا الشیئَ: کو کاٹنا۔ ــــ الرجُلَ: کو شاخ سے مارنا۔ قَضَّبَ الشیئَ: کو ٹکڑے کرنا۔ ــــ الکرمَ: موسم بہار میں انگور کی شاخیں تراشنا۔ شعاعُ الشمس: آفتاب کی کرن کا شاخوں کی طرح پھیلنا۔ اَقضبت الارضُ: زمین کا سبزہ زار ہونا۔ ساگ پات والی ہونا۔ تَقضّبَ الشیئُ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ ــــ شعاعُ الشمس: آفتاب کی کرن کا کٹی ہوئی شاخوں کی طرح پھیلنا۔ اِنقضبَ الشیئ: کو کاٹنا۔ اِنقضبَ: کٹنا۔ ــــ الکوکبُ من مکانہ: ستارے کا اپنی جگہ سے ہٹنا۔ سَیفٌ قاضِبٌ ج قَواضِبُ: بہت تیز کاٹنے والی تلوار۔ القاضِبۃُ، القاضب کی مونث، کہا جاتا ہے۔ مَا فِیْ فِیَّ قاضِبۃٌ: میرے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے۔ القَضْبُ واحد قَضْبَۃٌ: لمبی اور لٹکتی ہوئی شاخوں والا درخت، (ن): ایک درخت کا نام جس کی لکڑی سے کمان بنایا کرتے تھے، کٹی ہوئی شاخیں۔ القَضْبَۃُ ج قَضْبٌ: ساگ پات تر و تازہ جو کھایا جائے۔ ــــ ج قَضَباتٌ: شاخ، درخت نبع سے بنایا جانے والا تیر کا ڈنڈا۔ القِضْبَۃُ: اونٹوں یا بکریوں کا گلہ، سبک رو (مرد یا اونٹنی) القُضابَۃُ: کاٹی ہوئی چیز کے ٹکڑے۔ سَیفٌ قَضّابٌ و قَضّابۃٌ: بہت تیز کاٹنے والی تلوار۔ رَجُلٌ قَضّابۃٌ: معاملات کو بحسن و خوبی طے کرنے والا۔ القَضِیبُ ج قُضبانٌ و قِضبانٌ: کٹی ہوئی شاخ۔ ــــ ج قُضُبٌ: شمشیر براں، باریک تلوار، کمان جو درست شاخ سے بنائی ہوئی ہو۔ المِقضَبُ: درانتی۔ سَیفٌ مِقضَبٌ: بہت تیز کاٹنے والی تلوار۔ المَقضَبۃُ ج مَقاضِبُ و مَقاضِیبُ: ساگ پات اگنے کی جگہ۔ المِقضاب: درانتی، بہت کاٹنے والا۔ ارضٌ مِقضاب: سبزہ زار زمین ساگ پات اگانے والی زمین۔ المُقتَضَبُ: اوزان شعر میں ایک بحر کا نام جس کا وزن یہ ہے۔ فاعِلاتُ مُفتَعِلُن: دو مرتبہ۔

۲۔ قَضَبَ ـِ قَضْبًا الناقۃَ: اونٹنی کو سدھانے سے قبل اس پر سوار ہونا۔ اِقتَضَبَ الناقۃَ: اونٹنی سدھانے سے قبل اس پر سوار ہونا۔ ــــ الکلامَ: فی البدیهہ کلام کرنا۔ ــــ فلانًا: کو اچھی طرح سے کام کرنے کی صلاحیت سے قبل اس کے کرنے کی تکلیف دینا۔ القَضِیبُ ج قُضبانٌ و قِضبانٌ: نہ سدھائی ہوئی اونٹنی۔ المُقتَضَبُ: کام کی صلاحیت نہ ہونے سے پہلے اس کے کرنے کی تکلیف دیا ہوا۔ ــــ من الشعر و الکلام: فی البدیہہ شعر یا کلام۔

○ قَضَبَ ـِ قَضْبًا ہ: کو کاٹ ڈالنا ہ: درختوں کو چھانٹنا۔ قَضَّبَ: بمعنی قَضَبَ و اِقتَضَبَ: بمعنی قَضَبَ نیز اِقتَضَبَ ہ: کا خلاصہ لکھنا، کی تلخیص کرنا، کا خلاصہ بنانا، (تقریر) برجستہ کرنا (گانا) برجستہ گانا، فی البدیہہ نغمہ سرائی کرنا، آیات وغیرہ کا برجستہ یا فی البدیہہ پیش کرنا یا ان کا اقتباس پیش کرنا (تقریر) بیساختہ یا تیاری کے بغیر کرنا۔ قَضْب: خوردنی جڑی بوٹیاں۔ قَضِیب جمع قُضبان: کٹی ہوئی شاخ، ٹہنی، ڈالی، چھڑی، بید، ڈنڈا، سوٹا، لاٹھی، عصا، جادو کی چھڑی، (آتشدان کی) سلاخ، عضو تناسل، ریل کی پٹڑی، رہنما۔ قُضابۃ: کٹی ہوئی چیز، چھانٹی ہوئی چیز، درختوں کی کانٹ چھانٹ کے بعد جمع شدہ ٹکڑے۔ مِقضَب: چھانٹنے کی درانتی، چاقو یا بڑی قینچی۔ اقتضاب: تلخیص، خلاصہ، ملخص، مجموعہ، اقتباس، اختصار، برجستگی، بدیہہ گوئی ایجاز، جامعیت۔ مُقتَضَب: موجز، مختصر، مختصر اور جامع، برجستہ، فی البدیہہ، بیساختہ، تیاری کے بغیر۔ مُقتَضَبات: مختصر خبریں۔

قضع: ا۔ قَضَعَ ـَ قَضْعًا ہُ: کو مغلوب کرنا۔ تَقَضَّعَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا، جدا جدا ہونا۔ اِنقَضَعَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا جدا جدا ہونا۔ ــــ عنہ: سے دور ہونا۔ القَضْعُ و التَقضِیعُ: پیٹ کا درد اور مروڑ۔ القُضاعُ بمعنی القَضْعُ۔ ــــ و القُضاعَۃ: آٹے کی گرد، کھرچ کر صاف کی ہوئی دیوار کی جڑ۔

۲۔ القُضاع: چیتا۔ بن بلاؤ

۳۔ القَضْعَمُ: وہ بوڑھا جس کے دانت گر گئے ہوں۔

○ قَضْع: قلونج، درد شکم، مروڑ۔ قُضاع: قولنج، مروڑ، درد شکم۔

قضف: ا۔ قَضُفَ ـُ قَضَفًا و قِضَفًا و قَضافۃً: نحیف و لاغر ہونا صفت۔ قَضِیفٌ ج قِضافٌ و قُضفانٌ و قُضَفاءُ۔ القَضَفُ: پتلے پتھر۔ القَضِیفۃُ من النساء: کم گوشت والی دبلی پتلی عورت جمع قضاف۔

۲۔ اِنقَضَفَ: ٹوٹنا۔ القِضَفۃُ: ریت کا ٹکڑا جو بڑے حصے سے علیحدہ ہو گیا ہو۔ القَضَفۃُ ج قَضَفٌ و قِضافٌ و قُضفانٌ و قِضفانٌ: ٹیلہ جو ایک پتھر کا معلوم ہو، زمین کا ٹکڑا جو ابھرا ہوا ہو اور کچھ لمبا ہو (ح) ایک

قضم: ا۔ قَضَمَ ــــ قَضْمًا الشیئَ: کو دانت کے اطراف سے کاٹنا اور کھانا۔ قَضِمَ ـَ قَضْمًا الشیئَ: دانت کے اطراف سے کاٹنا اور کھانا، کہا جاتا ہے۔ هُوَ یَقضَمُ الدُنیا قَضْمًا: جب وہ دنیا سے بے رغبتی کرے اور معمولی چیز پر راضی ہو جائے۔ قَضِمَ قَضَمًا تِ السِنُّ: دانت کے اطراف کا ٹوٹنا۔ ــــ الرجُلُ: دانت کے ٹوٹے ہوئے اطراف والا ہونا۔ ــــ السیفُ: تلوار پرانی ہونے کی وجہ سے دھار خراب ہونا۔ اَقضَمَ الدابۃَ: جانور کو جو کا چارہ دینا۔ القَضِمُ من الاسنان و الرجال و السیوف: اطراف سے ٹوٹا ہوا دانت جس کے دانت کے اطراف ٹوٹے ہوئے ہوں، پرانی ہونے کی وجہ سے خراب دھار والی تلوار۔ القَضَمُ (مص): تلوار، القضیم کی جمع۔ القُضمَۃُ و القَضامُ و المِقضَمُ: جو دانت کے اطراف سے کاٹا جائے، کہا جاتا ہے۔ مَا ذُقتُ قُضمَۃً و قَضامًا و مِقضَمًا: یعنی میں نے کچھ نہیں چکھا۔ القَضامِیُّ: کھانے کے لئے تر کر کے بھنے ہوئے چنے۔ القَضِیمُ ج قَضَمٌ و قُضُمٌ و اَقضِمَۃٌ: جس کو دانت کے اطراف سے کاٹا جائے، ٹوٹی ہوئی دھار کی تلوار۔ القَضِیمَۃُ ج قَضَمٌ و قُضُمٌ و اَقضِمَۃٌ: جانوروں کے لئے جو۔

۲۔ قاضَمَ مُقاضَمَۃً: تھوڑا تھوڑا کر کے بیچنا یا خریدنا۔ اَقضَمَ و اِستَقضَمَ القومُ: قحط میں تھوڑا غلہ لینا۔ القُضّامُ ج قَضاضِیمُ: کھجور کا لمبا درخت کہ جس کے پھل خشک اور کم ہو گئے ہوں۔

۳۔ القَضِیمُ ج قَضَمٌ و قُضُمٌ و اَقضِمَۃٌ: گھڑی۔ کاغذ۔ ــــ و القَضِیمَۃُ ج قَضَمٌ و قُضُمٌ و اَقضِمَۃٌ: چاندی، چمڑے کا فرش جو مجرم کے نیچے بچھا دیتے ہیں تا کہ خون سے زمین خراب نہ ہو۔ چمڑا، سفید چمڑا جس پر لکھا کرتے تھے۔

○ قَضِمَ ــــ و قَضَمَ ـِ قَضْمًا ہ: کو کاٹنا، کترنا۔ قُضامۃ: نمک لگا کر بھونے ہوئے چنے، مختلف قسم کے اخروٹ، بادام، جوز، پستے وغیرہ، دانہ دنکا، چوگا، طعمہ الحیوانات القاضِمۃ: کترنے والے جانور۔

قضی: قَضَی یَقضِی قَضاءً حاجتہٗ: ضرورت پوری کرنا اور اس سے فارغ ہونا۔ ــــ الشیئَ: کو مضبوطی سے بنانا اور اس کا اندازہ کرنا۔ ــــ وَطَرَہٗ: مراد کو پہنچنا۔ ــــ عَبرَتَہٗ: تمام آنسو بہا دینا۔ ــــ الدَینَ: قرض ادا کرنا کہا جاتا ہے۔ قَضٰی مِنہُ العَجَبَ: پر بہت زیادہ تعجب کیا۔ لَا اَقضِی مِنہُ العَجَبَ: یعنی تعجب کا حق ادا کرنا ممکن نہیں کیونکہ معاملہ بہت عظیم الشان

ہے۔ الصلوۃ: نماز ادا کرنا۔ الامر الیه: کو تک پہنچانا۔ العهدَ: کو نافذ کرنا۔ علیه عهدا: کو وصیت کرنا۔ الرجُلُ وقَضٰی نَحْبَهٗ وقَضٰی اَجَلَهٗ وقُضِیَ عَلَیْهِ: مرنا، کہا جاتا ہے ضربه فقضی علیه کو مار کر قتل کر ڈالا یا کو جان سے مار ڈالا۔ قَضٰی تَقْضِیَۃً: مرنا۔ تَقْضِیَۃً و قِضَاءً وَطَرَہٗ: کی مراد بر آنا۔ الامرَ: معاملے کا نفاذ کرنا۔ تَقَضّٰی وانْقَضَی الشیئُ: فنا ہونا، ختم ہونا۔ تقاضٰی ہٗ الدَّیْنَ وغیرہٗ و بالدَّیْنِ: سے قرض کا تقاضا کرنا اور وصول کرنا۔ اِقْتَضٰی اِقْتِضَاءً الحالُ کذا: ایسا چاہنا لازم کرنا۔ ہ الدَّیْنَ وغیرَہٗ: سے قرض وغیرہ کا مطالبہ کرنا اور لینا کہا جاتا ہے۔ اِفْعَلْ ما یَقْتَضِیهِ کَرَمُكَ: وہ کرو جو تمہارے کرم کا تقاضا ہو۔ اِسْتَقْضٰی اِسْتِقْضَاءً فلانًا الدَّیْنَ: سے قرض ادا کرنے کا مطالبہ کرنا۔ سَمٌّ قَاضٍ: زہر قاتل۔ القاضِیَۃُ: موت، کہا جاتا ہے۔ اَتَتْ عَلَیْهِ القَاضِیَۃُ: یعنی اسے موت آئی۔ القَضٰی و القَضَاءُ ج اَقْضِیَۃٌ: ادا القضاء اسم مبالغہ مضبوط زرہ۔ القَضِیُّ: موت کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ قَضِیٌّ: جلد فیصلہ کرنیوالا مرد۔

۲۔ قَضٰی یَقْضِیْ قَضَاءً وقَضْیًا و قَضِیَّۃً بینَ الخصمین: مقدمہ کے دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ الامرَ لہٗ او علیه: کے موافق یا مخالف معاملہ کا فیصلہ کرنا۔ اسے لازم کرنا۔ —— الشیئَ: کو جتانا، بیان کرنا۔ قَضّٰی تَقْضِیَۃً و قِضَّاءً فلانًا: کو قاضی بنانا۔ قَاضٰی مُقَاضَاۃً فلانًا الی الحاکم: کو فیصلہ کے لئے جج کے پاس لے جانا۔ —— ہٗ علیٰ مال: مال پر صلح کرنا۔ تقاضی المتخاصمان اِلی الحاکم: دونوں کا جج کے پاس فیصلہ کے لئے جانا۔ اِقْتَضٰی اِقْتِضَاءً الامرُ الوجوبَ: صیغہ امر کا وجوب پر دلالت کرنا۔ اِسْتَقْضٰی اِسْتِقْضَاءً السلطانُ فلانًا علینا: کو ہم پر قاضی بنانا۔ —— ہ: کو فیصلہ کے لئے طلب کرنا۔ اُسْتُقْضِیَ فلانٌ: قاضی بنایا جانا۔ القاضِیُ (فا) حاکم شرعی، جج۔ قَاضِی القُضَاۃِ: قاضیوں کا رئیس۔ چیف جسٹس۔ القاضِیَۃُ، القاضی کا مونث۔ القَضٰی و القَضَاءُ ج اَقْضِیَۃٌ: حکم۔ القَضِیَّۃُ (مص) ج قَضَایَا، قَضٰی: کا اسم —— عند المنطقیین: وہ قول جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ المُسَلَّمَۃُ: تسلیم شدہ فیصلہ۔

۳۔ تَقَضّٰی البازی: باز کا ٹوٹ پڑنا۔ اس کی اصل تَقَضَّضَ ہے ضاد اخیرہ کو تخفیف کے لئے یاء سے بدل دیا گیا ہے۔

۴۔ القِضَۃُ ج قِضًی و قِضَات و قِضُونَ (ن): ایک ترش قسم کی گھاس۔

◯ قَضٰی اَجَلَهٗ: فوت ہونا، مرنا۔ قضی العَجَبَ من: پر بڑا استعجاب ہونا، بہت ششدر ہونا۔ قَضٰی نَحْبَهٗ: اپنی قسم، یا عہد پورا کرنا، مرنا۔ قَضٰی وَطَرَہٗ: اپنا مقصد حاصل کرنا، خواہش پوری ہوتی دیکھنا۔ قُضِیَ الامرُ: معاملہ کا فیصلہ ہو گیا۔ قطعی فیصلہ کر لیا گیا۔ قُضِیَ امرُہٗ و قُضِیَ علیه: وہ ختم ہو گیا۔ قضی فیصلہ عدالتی فیصلہ۔ قضاء: اختتام، خاتمہ، اخیر، تمام، تکمیل، تعمیل، خواہش، (آرزو کی) تسکین، ضرورت کی چیز مہیا کرنا، درخواست کے مطابق عمل، فرض یا قرضہ کی ادائیگی، وقت مدت گزارنا، تقدیر، مقدر، فیصلہ، عدالتی فیصلہ، فرمان، نفاذ قانون، انتظام، عدالت، عدلیہ، اصول، قانون، نظام عدالت، ججی۔ —— علی: کو سزا کا حکم، کا قلع قمع، کا قتل، کو نا کام بنا دینا، جمع اَقْضِیَۃ: ضلع، صوبہ قضاء الله: وفات، القضاء الشرعی: شریعت پر مبنی عدالتی اختیار، شرعی قانون، دارُ القضاء: عدالت محکمة القضاء الاداری: انتظامی عدالت القضاء و القدر: تقدیر۔ بالقضاء و القدر یا قضاءً و قدرًا: تقدیر سے حکم الٰہی سے۔ قُضِیَ القضاء: حکم الٰہی پورا ہوا، موت اللہ تعالیٰ کی رضا سے واقع ہوئی۔ قضائی: عدالتی، انصاف کرنے سے متعلق، قانونی، عدالتوں سے متعلق، حارس قضائی جمع حُرّاس قضائیون: قانونی طور پر مقرر متولی یا ناظم، دیوالئے کا متولی، تصفیہ کرنے والا، قرقی کرنے والا القضیۃُ الصلح: صلح کرانے والے جج کا اختیار قَضِیّۃ جمع قَضَایا: نالش، مقدمہ، (قانونی) کیس، قانونی قضیہ، معاملہ، قضیہ، مسئلہ، کلیہ (ریاضی) مسئلہ (ریاضی)۔ مُقَاضاۃ: مقدمہ کی سماعت، انقضاء: گزرنا، خاتمہ، اختتام، (وقت، مدت کا) فرض کا انعدام۔ اقتضاء: ضرورت، احتیاج عند الاقتضاء: ضرورت پڑنے پر، اگر ضروری ہو۔ قاضٍ: فیصلہ کن، جان لیوا، مہلک۔ جمع قُضاۃ: جسٹس، جج، مجسٹریٹ، قاضی جمع قَوَاضٍ: ضروریات، ہنگامی صورت حالات۔ سَمٌّ قاض: زہر قاتل۔ ضَرْبَۃٌ قاضیۃ: جان لیوا یا مہلک چوٹ، ضرب، گھونسا، مکا۔ —— علی: کے خلاف فیصلہ کن ضرب۔ پچھاڑنے والی ضرب Knock out رای من قواضی الذِّمّۃ أن: کو اپنا فرض سمجھنا۔ قاضی البحث یا قاضی التحقیق: تفتیشی مجسٹریٹ قاضی الاحالة: مدعا علیه کے استغاثہ پر مقدمہ کی سماعت کرنے والا جج۔ قاضی الصلح: صلح کرانے والا جج۔ مَقْضِیّ: فیصلہ کیا ہوا، ختم کیا ہوا، کیا ہوا، مکمل کیا ہوا، بجا لایا ہوا، پورا کیا ہوا، انجام دیا ہوا وغیرہ الامرُ المَقْضِیّ: جو بات ہو ہی چکی، اٹل بات مُتَقَاضٍ جمع مُتَقَاضُون: فریق مقدمہ۔ متقاضیان: مقدمہ کے دو فریق مُتَقَاضِیّ: قانونی استغاثہ کی شرط پر مُقْتَضٰی: ضروری، مطلوبہ۔ جمع مُقْتَضَیات ضرورت، احتیاج، حاجت بمُقْتَضٰی: کے مطابق، کے تحت، عند مقتضیات الاحوال: اگر حالات کا تقاضا ہو۔

قط: ۱۔ قَطَّ ـُ قَطًّا القلمَ ونحوَہٗ: قلم پر قط لگانا۔ —— البیطارُ حافرَ الدابۃِ: سلوتری کا چوپایہ کے کھر تراشنا اور ہموار کرنا قَطَّ الخَرَّاطُ الخشبۃَ خرادی کا لکڑی کو تراشنا اور ہموار کرنا۔ اِقْتَطَّ الشیُّ: منقطع ہونا۔ —— القلمَ: قلم پر قط لگانا۔ —— البیطارُ حافرَ الدابّۃِ: سلوتری کا چوپایہ کے کھر تراشنا اور ہموار کرنا۔ اِنْقَطَّ الشیُّ: کٹنا، منقطع ہونا۔ قَطْ حَسْبُ کے معنی میں آتا ہے جیسے قَطْنِی وقَطْكَ و قَطْ زَیْدٍ دِرْهَمٌ بمعنی حَسْبِی وحَسْبُكَ و حَسْبُ زَیْدٍ دِرْهَمٌ فرق یہ ہے کہ قطنی ہے اور حسب معرب اسم فعل ہو کر بمعنی یکفی بھی مستعمل ہے اس صورت میں نون وقایہ کے ساتھ بناء علی السکون کی حفاظت کیلئے قطنی کہا جاتا ہے، اگر تقلیل کا ارادہ ہو تو ساکن کر دیتے ہیں جیسے مَا عِنْدِیْ اِلَّا هٰذَا قَطْ۔ اور اگر ہمزہ وصل کے ساتھ ملے تو آخر کو کسرہ دیدیتے ہیں جیسے مَا عَمِلْتُ اِلَّا هٰذا قَطِ الْیَوْمَ اور کبھی تحسین لفظ کے لئے اس کے شروع میں فاء داخل کرتے ہیں جیسے رَأَیْتُهٗ مَرَّۃً فَقَطْ یعنی میں نے اس کو صرف ایک ہی مرتبہ دیکھا۔

قَطُّ: ظرف زمان ہے اور استغراق ماضی کے لئے آتا ہے اور نفی کے ساتھ مختص ہے جیسے مَا فَعَلْتُ هٰذا قَطُّ اور کبھی قُطُ اور قَطُ بھی کہا جاتا ہے۔ القِطُّ ج قُطُوطٌ: حصہ، چیک، حساب کا رجسٹر، رات کا ایک حصہ۔ قَطَاطِ: اسم فعل حَسْبُ کے معنی میں۔ القِطَاطُ ج اَقِطَّۃٌ: چوپایہ کے سم کا گھیرا، پہاڑ کا کنارہ، نمونہ کہ جس کو دیکھ کر کوئی چیز قطع کریں: —— والقَطِیطَۃُ ج قَطَائِطُ: غار کا بالائی کنارہ کہا جاتا ہے: جَاءَتِ الخَیْلُ قَطَائِطَ: گھوڑے گروہ در گروہ آئے۔ القَطَّاطُ: اسم مبالغہ، خراد کرنے والا۔ المِقَطُّ والمِقَطَّۃُ: قطزن جس پر کاتب قلمیں بناتا ہے۔ المِقَطُّ: گھوڑے کے پہلو کی ہڈی کے سرے کا منتہا۔

۲۔ قَطَّ ـِ قَطًّا و قُطُوطًا و قَطَّ السِّعْرُ: بھاؤ گراں ہونا

صفت قَطٌّ و قَاطٌّ و قَاطِطٌ سِعْر قَاطٌّ و قَاطِطٌ ومَقْطُوطٌ: گراں (گراں بھاؤ، گراں نرخ)۔

۳۔ قَطَّ ـَ وقَطِطَ ـَ قَطَطًا و قَطَاطَةً الشَّعَرُ: بال چھوٹے اور گھنگریالے ہونا صفت قَطٌّ و قَطَط رَجُل قَطٌّ و قَطَطٌ چھوٹے گھنگریالے بالوں والا ج قَطُّوْنَ وقِطَاطٌ و اَقْطَاطٌ و قَطَطُوْن. اِمْرَاَة قَطَة وقَطَطٌ گھنگریالے بالوں والی عورت۔ القِطَاطُ ج اَقِطَّةٌ بالوں کا گھنگریالا پن۔ القَطَوْطی چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے والا۔

۴۔ القِطُّ جمع قِطَاطٌ و قِطَطَةٌ واحد قِطَّةٌ (ح): بلّی۔ قِطُّ الزَّبَادِ. دیکھئے لفظ الزباد۔

۵۔ قَطْقَطَ قَطْقَطَةً ت الحجلة حجلہ کے پردہ کی آواز آنا۔ ــــ السحاب بادل کا اولے یا تھوڑی بارش برسانا القطقط اولے یا تھوڑی بارش۔

۶۔ تقطقط الرجُل فی الامر معاملہ کے سر پر سوار ہونا۔ ــ فی البلاد. ملک میں جانا۔ ــ الدلو الی البئر ڈول کا کنویں میں نیچے جانا

۷۔ تَقَطْقَطَ الرجُلُ: جلدی جلدی چلنا۔ القَطْقَاطُ: تیز رو، تیز رفتار والا۔

○ قَطُّ. کبھی نہیں، ہرگز نہیں بالکل نہیں، صیغہ ماضی کے انکار والے جملوں کے ساتھ، کبھی قَطَّاط: خرادیا۔ قُطَيْطَة. بلی کا بچہ۔ قِطَة: بلی۔

قطب: ۱۔ قَطَبَ ـِ قَطْبًا الشیئَ کو جمع کرنا، کاٹنا۔ ــ الشرابَ: میں ملاوٹ کرنا۔ ــ الرجُلَ کو غضبناک کرنا۔ ــ الجوالقَ: گون کے دونوں گوشوں کو ملانا۔ ــ الاناءَ: برتن بھرنا۔ القومُ: جمع ہونا۔ قَطَبَ قَطْبًا وقُطُوْبًا الرجلُ: ترش روئی کرنا صفت۔ قَطِبٌ۔ قَطَّبَ الرجُلُ: ترش روئی کرنا ــ الشرابَ: میں ملاوٹ کرنا۔ اَقْطَبَ القومُ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ ــ الشرابَ: میں ملاوٹ کرنا۔ القَاطِبُ و القَطُوْبُ ترش رو، شیر، کہا جاتا ہے۔ جَاءُ وْاقَاطِبَةً یعنی سب آئے (قَاطِبَةً حالیت کی بناء پر منصوب ہے۔) القُطْبُ ج اَقْطَابٌ: چکی کی کیل جس پر چکی گھومتی ہے۔ القُطْبُ ج اَقْطَابٌ وقُطُوْبٌ وقِطَبَةٌ مدار کار، کہا جاتا ہے هُوَقُطْبُ ذَالِكَ الْاَمْرِ وہ معاملہ کا محور ہے وَصَاحِبُ الْجَيْشِ قُطْبُ رَحَی الْحَرْبِ. سالار لشکر جنگ کا مدار ہے، قوم کا سردار جو ان کے معاملات نبٹاتا ہے یا سلجھاتا ہے۔ فُلَانٌ قُطْبُ بنِی فُلَانٍ فلاں شخص اپنے قبیلہ کا رہنما ہے (فلک) فرقدین اور جدی کے درمیان ایک ستارہ کا نام جس سے قبلہ کی تعیین کرتے ہیں۔ یہ ستارہ ہمیشہ ایک ہی جگہ رہتا ہے اس لئے اسے قطب الرحی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ (ھ) متحرک کرہ پر ایک نقطہ ثابتہ۔ ــ عند الجغرافیین زمین کے محور کا کنارہ اور وہ دو ہیں قطب شمالی اور قطب جنوبی۔ القُطْبَانِ السَّمَاوِيَّان (فلک، قطب شمالی اور جنوبی القَطْبُ و القِطْبُ و القُطُبُ ج اَقْطَابٌ: چکی کی کیل جس پر چکی گھومتی ہے۔ القُطْبَةُ ج قُطَبٌ. ہدف کا پیکان، چکی کی کیل جس پر چکی گھومتی ہے۔ ــ عند الجغرافیین قطب یا زمین کے محور کا کنارہ۔ القِطَابُ: گریبان کے ملنے کی جگہ یا اس کا نچلا حصہ ملاوٹ۔ القُطَابَةُ: گوشت کا ٹکڑا۔ القَطِيْبُ ملاوٹ والا مشروب۔ ــ والقَطِيْبَةُ اونٹنی اور بکری کا ملایا ہوا دودھ، کہا جاتا ہے۔ جَاءَ القوم بقَطِيْبَتِهِمْ یعنی سب آئے۔ المَقْطُوْبُ ملایا ہوا مشروب۔

۲۔ القَطْبُ کسی چیز کو لینے کے بعد باقی کو انکل سے بغیر وزن کے لینا، کہا جاتا ہے اَخَذَهٗ قَطْبًا: اس نے اسے انکل سے بغیر وزن کے لے لیا۔ القُطْبَةُ ج قُطَبٌ (ن): ایک قسم کی گھاس القِطْبِی (ن): ایک قسم کی نباتات جس سے رسی بنائی جاتی ہے۔ القُطْبَانُ (ن): ایک قسم کی نباتات۔

○ قَطَبَ ـِ قَطْبًا و قُطُوبًا: بھویں سکیڑنا (ــ حاجِبَيْهِ بھویں سکیڑنا) تیوری چڑھانا، گھورنا، قہر آلود نگاہیں ڈالنا، تیز تیز نظروں سے دیکھنا۔ ــ جبینه: تیوری چڑھانا۔ قَطَّبَ. بمعنی بالا، نیز قَطَّبَ ہ: کو سینا۔ تَقَطَّبَ: چہرہ تاریک ہو جانا۔ استقطب ہ: میں دو متضاد یا برعکس رجحانات پیدا کرنا۔ قُطْب جمع اَقْطَاب. محور، دھرا، سرا زمین کے محور کا کوئی ایک سرا، مقناطیس کا قطب، چول، مدار، محور، مرکزی نقطہ، بنیادی نقطہ، رہنما، قائد، رہبر، سب سے بڑی یا اہم شخصیت، مشہور شخصیت (عموماً جمع میں مستعمل ہے) قطب الرَحَی. مدار، محور (کسی چیز کا) القطب الشمالی قطب شمالی، القطب الجنوبی قطب جنوبی، قطب سالب. برقی خانے کا منفی سرا۔ قطب منفی، منفی برقیرہ قطب مُوجَب: برقی خانہ کا مثبت سرا، مثبت قطب، مثبت برقیرہ۔ قُطْبِی: قُطْبِی الشفق القطبی قطبی روشنی۔ قُطْبَة: ٹانکا، بخیہ۔ قَطُوب تیوری چڑھانے والا، چیں بجبیں، گھورنے والا، بڑے تیوروں سے دیکھنے والا، قہر آلود نگاہیں ڈالنے والا، تیز تیز نظروں سے دیکھنے والا۔ استقطاب متضاد رجحانات قاطبةً سب بلا استثناء، سب، ہر ایک، انفرادی اور اجتماعی طور پر۔

قطر ۱۔ قطر ـُ قَطْرًا الجمل اونٹ پر قطران ملنا۔ قَطَرَ قَطْرًا وقُطُوْرًا و قَطَرَانًا الماءُ: پانی کا بہنا اور قطرہ قطرہ ٹپکنا۔ ــ الصَمغُ من الشجرة درخت سے گوند نکلنا۔ قَطَّرَ الماءَ: کو ایک ایک قطرہ ٹپکانا۔ ــ الدواءَ دوا کا پانی انبیق سے کشید کرنا۔ ــ الثوبَ کپڑے کو عود کی دھونی دینا۔ اَقْطَرَ الماءَ: کو ایک ایک قطرہ ٹپکانا۔ ــ الماءُ: پانی کا بہنا۔ ــ الشیئُ کے ٹپکنے کا وقت قریب ہونا تَقَطَّرَ: عود کی دھونی دیا ہوا ہونا۔ ــ الماءُ: پانی کا قطرہ قطرہ بہنا۔ تَقَاطَرَ الماءُ. پانی کا بہنا اور ایک ایک قطرہ گرنا۔ اِسْتَقْطَرَ الماءَ وغیرَهٗ: پانی وغیرہ ٹپکانے کی خواہش کرنا اور اس میں مشغول ہونا۔ القَاطِرُ (فا). ٹپکنے والا گوند، (ن) دم الاخوین (بوٹی ہے) القُطْرُ و القُطُرُ. عود، اگر۔ جس کا دھواں لیا جاتا ہے۔ مثلاً اگربتی وغیرہ۔ القَطْرُ (مص) ج قِطَارٌ بارش، کسی بہنے والی چیز کا قطرہ، ٹچک۔ القَطْرَةُ ج قَطَرَاتٌ. قطر سے اسم مرہ، نقطہ، کہا جاتا ہے رَمَاهُ اللّٰهِ بقَطْرَةٍ: اللہ اس پر مصیبت نازل کرے۔ القُطَارُ: زہر جو کثرت کی وجہ سے ٹپکے۔ وَالقَطُوْرُ والمِقْطَارُ: بہت برسنے والا بادل۔ القُطَارَةُ: قطرہ، تھوڑا پانی۔ القَطْرَانُ والقِطْرَانُ و القَطِرَانُ: (ک) کولتار کی مانند ایک چیز جو درختوں سے بنایا جاتا ہے مثلاً صنوبر اور قیدار القُطَارِیُّ والقُطَارِيَّةُ: سانپ۔ المِقْطَرُ والمِقْطَرَةُ ج مَقَاطِرُ: دھونی دینے کا انگارہ دان المَقْطُوْرُ (مفع): قطران ملا ہوا۔ ــ اَرْضٌ مَقْطُوْرَةٌ: بارش شدہ زمین۔

۲۔ قَطَرَ ـُ قَطْرًا الابلَ: اونٹوں کو ایک قطار میں کرنا کہا جاتا ہے۔ قَطَرَ البَعِيْرَ اِلَی البَعِيْرِ. ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ کے قریب کر دیا۔ ــ الثوبَ کپڑے کو سینا، کہا جاتا ہے۔ مَا اَدْرِیْ مَنْ قَطَرَهٗ اَوْمَنْ قَطَرَ بِهٖ. مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کون لے گیا (اور یہ نفی کے ساتھ خاص ہے)۔ قَطَرَ قَطْرًا الرجُلُ: دانہ وغیرہ کا وزن لے لینا اور باقی ماندہ اشیاء کو اسی حساب سے اندازے سے بغیر وزن کے لینا۔ قَطَّرَ واَقْطَرَ الابلَ اونٹوں کو ایک قطار میں کرنا۔ تَقَاطَرَ القومُ گروہ گروہ کا پے در پے آنا۔ القَاطِرَةُ: القاطر کا مونث۔ انجن (ریل گاڑی کا) القَطْرُ غلے وغیرہ کا وزن لے لینا اور باقی کو اسی حساب سے بلا وزن کے انکل لے لینا۔ القِطَارُ من الابل: ج قُطُرٌ و قُطُرَاتٌ: اونٹوں کی قطار۔ ٹرین، برقی ٹرین کہا جاتا ہے قطار سكة الحديد والقطار الحديدی ٹرین القِطَارَةُ اونٹوں کو ایک قطار میں ایک کے پیچھے ایک باندھنا، کہا

جاتا ہے۔مَرَّتْ بِہٖ قِطَارَۃُ جَمَالٍ: اس کے پاس سے اونٹوں کی قطار گزری۔المِقطَرَۃَ: وہ لکڑی جس کے سوراخوں میں قیدیوں کے پاؤں داخل کئے جاتے ہیں المُقَاطَرَۃَ: غلے وغیرہ کو وزن کر کے لینا اور کو اسی حساب سے انکل سے لینا، کہا جاتا ہے۔اَکْرَاہُ مُقَاطَرَۃً: یعنی آمد و رفت کیلئے کرایہ کیا۔

۳-قَطَرَ ـُ قَطْرًا ہُ: کو سخت پچھاڑنا-قَطَرَ قُطُورًا فی الارض: زمین میں جانا-اَقْطَرَ ہُ: کو ایک جانب گرا دینا-تَقَطَّرَ الرجلُ: اپنے آپ کو اوپر سے پھینک دینا، گرنا۔ــــ بہ: کو ایک جانب گرا دینا-تَقَاطَرَا: کناروں کا مقابل ہونا-القُطْرُ ج اَقْطَارٌ: اقلیم، گوشہ، جانب (ھ): وہ خط مستقیم جو دائرہ کو تقسیم کر دے اور مرکز سے گزر کر محیط پر ختم ہو-فی المضلّع وفی المتوازی السطوح: (ھ): وہ خط مستقیم جو غیر متواتر سروں کو ملائے-قطر الشمس الظاهر (فلک): ایسا زاویہ جس پر سورج اس زمینی مرکز سے نظر آتا ہے اَقْطَارُ الدنیا: دُنیا کی چاروں جہتیں۔

۴-اَقْطَرَ النبتُ: نباتات خشک ہونے لگنا اِقْطَرَّ واِقْطَارَّ: خشک ہونے لگنا۔

۵-تَقَطَّرَ عن کذا: سے پیچھے رہنا۔

۶-اِقْطَرَّ و اِقْطَارَّ الرجلُ: غضب ناک ہونا۔

۷-اِقْطَرَّ واِقْطَارَّتِ الناقۃُ: اونٹنی کا دم اور سر اٹھانا۔

۸-القِطْرُ: تانبے کی ایک قسم، پگھلا ہوا تانبا، ایک قسم کی چادر-القُطْرَۃُ والقُطَیْرَۃُ: معمولی چیز، گھٹیا چیز۔

۹-قَطْرَبَ: جلدی کرنا۔ ہٗ: کو پچھاڑنا-تَقَطْرَبَ: سر کو حرکت دینا۔قطرب کے مشابہ ہونا-القُطْرُبُ: پچھاڑا ہوا۔(ح): ایک کیڑا جو ہر وقت حرکت کرتا ہے یا جگنو، (ح): بال گرا ہوا بھیڑیا، (خ): بھوت، چھوٹا کتا، چھوٹے جن، چور، جاہل، بے وقوف، بزدل۔ (طب): مالیخولیا کی ایک قسم (ن): ایک خاردار پودہ جو گزرنے والے سے چمٹ جاتا ہے۔

۱۰-قَطْرَنَ البعیرَ: اونٹ پر قطران ملنا-القَطْرَانُ والقِطْرَانُ والقَطِرَانُ (ک): کولتار کی مانند ایک چیز جسے بعض درختوں سے بنایا جاتا ہے۔

○ قَطَرَ ـُ قَطْرًا و قَطَرَانًا: ٹپکنا، رسنا-قَطَّرَ ہٗ: کو ٹپکانا، قطروں میں گرانا یا بہانا، قطروں میں انڈیلنا یا ڈالنا، فلٹر کرنا، کو چھاننا یا اس کی تقطیر کرنا، کو باریک، عمدہ یا خالص بنانا، الائش سے صاف کرنا، کشید کرنا، کا عرق کھینچنا، کو مقطر کرنا، اونٹوں کو آگے پیچھے ایک قطار میں ڈوری سے باندھ کر کھڑا کرنا، اونٹوں کی قطار بنانا، گاڑیاں جوڑنا، بحری جہاز کو زنجیر کی مدد سے کھینچنا، ٹگ بوٹ کے ذریعے کشتی کھینچنا-تَقَطَّرَ: قطروں میں گرنا یا بہنا، ٹپکنا، رسنا، قطرہ قطرہ یا تھوڑی مقدار میں گرنا یا بہنا۔ــــ الی: میں رچ بس جانا، چھوٹے شگافوں یا سوراخوں میں سے گزرنا-تَقَاطَرَ اِلی: کسی کے پاس ہجوم کرنا، جوق در جوق چلے آنا، ہجوم کی صورت اختیار کرنا۔ــــ علی: کسی جگہ میں ہجوم کرنا، جوق در جوق چلے آنا، ریوڑ کی صورت میں اکٹھا ہونا-اِسْتَقْطَرَ ہٗ: کو ٹپکانا، گرانا، کشید کرنا، مقطر کرنا، تقطیر کے ذریعے نکالنا۔

قَطْر: ٹپکنا، رسنا، ٹپکا-قَطْرہ واحد جمع قِطَار: قطرے، چھوٹے چھوٹے اجزا یا ٹکڑے، بارش۔ــــ شربت-قَطْر جمع قُطُورات: ٹرین (ریل گاڑی کی)-قَطْرجی جمع قَطْرجیۃ: کانٹا بدلنے والا، ریل پٹڑیوں کے کانٹے بدلنے والا-قُطْر جمع اَقْطَار: خطہ، علاقہ، ضلع، سیکشن، زمین کا قطعہ، منطقہ، ملک، (دائرہ کا) قطر، وتر، بندوق وغیرہ کی نالی کا قطر-القُطْرُ المصری: مصر-نصفُ قُطْرِ الدائرۃ: دائرہ کا نصف قطر-اربعۃُ اقطار الدنیا: چار وانگ عالم۔ الروعۃ التی تاخذنی من جمیع اقطاری: وجد جو مجھے مکمل طور پر شیفتہ رکھتا ہے۔ جو میرے دل میں پوری طرح سرایت کر جاتا ہے-قُطْرِی: علاقائی، ملکی، قطری-قُطَیْرۃ: چھوٹی بوند، چھوٹا جز یا ٹکڑا-قِطَار جمع قِطَارات و قُطُرات: اونٹوں کی قطار، ٹرین (ریلوے کی) ریل روڈ، سپاہیوں کی ایک قطار-قِطَارُ البضاعۃ: مال گاڑی-قِطَار حدیدی: ریلوے ٹرین-قطار خاص (خصوصی او مخصوص): سپیشل ٹرین-قِطَار الرکّاب: پسنجر ٹرین، مسافر گاڑی-قِطار سبّاق: ایکسپریس ٹرین، تیز رو ٹرین، قطار سریع: ایکسپریس ٹرین-قِطارٌ وَقّاف: لوکل ٹرین-قَطَّارَہ: ڈراپر، قطرہ ریز، قطرہ ریز ٹیوب، رقیق اشیاء کو ناپنے یا منتقل کرنے اور سوراخ دار سرے کی درجہ بند نلی-قَطِرَان: تارکول، گندہ بروزہ، قیر۔

مِقْطَر جمع مَقَاطِر: عود دان اگر دان، بخور دان، عود سوز-مِقْطَرۃ جمع مَقَاطِر: عود دان، اگر دان، بخور دان، عود سوز۔ شکنجہ (سزا دینے کا ایک آلہ)-قَاطِرَۃ جمع قاطرات: ریل کا انجن، ڈیزل انجن سے چلنے والی پہیے دار گاڑی، ریل کار-مَقْطُورات: ٹریلر، ٹرک ٹریلر (جمع)-مُقَطَّرات: سپرٹ (الکحل میں کسی بنیادی یا اڑ جانے والی شے کا تیار کیا ہوا محلول، سپرٹ کے محلول۔

قَطْرَمیز: شیشے کی بڑی بوتل یا مرتبان-قَطْرَنَ ہٗ: کو کولتار سے لتھیڑنا، کو کولتار سے لیپنا۔

قطع: قَطَعَ ـَ قَطْعًا و مَقْطَعًا و تِقِطَّاعًا الشیئَ: کو کاٹنا، جدا کرنا۔ــــ الصلوٰۃَ: کو باطل کرنا۔ــــ فی القول: یقین کرنا کہا جاتا ہے-اِنِّی اَقْطَعُ بِذٰلِكَ قَطْعًا: میں اسے یقین سے کہتا ہوں۔ــــ ہٗ عن حقِّہٖ: کو سے منع کر دینا۔ــــ الطریق علی السالکین: چلنے والوں پر راستہ بند کرنا اور اسے خوفناک بنانا۔

قَطَعَ قَطْعًا و قُطُوعًا النہرَ: نہر عبور کرنا۔ــــ لسانَہٗ: احسان کر کے کی زبان بندی کرنا۔ ہٗ بالحجۃ: کو دلیل سے سرزنش کرنا۔ ہ بالقطیع او السوط: کو چھڑی یا کوڑے سے مارنا-قَطَعَ قَطْعًا الحوضَ: حوض کو آدھے تک بھر کر پانی روک دینا-فلانٌ الحبلَ او بحبلٍ: اپنے آپ رسی سے گلا گھونٹنا۔ــــ عنقَ دابتہ: کو بیچنا-لہ قطعۃً من المال: کو دینے کے لئے مال کا ایک حصہ جدا کرنا-قَطَعَ قَطْعَۃَ الصدیقَ: دوست کو چھوڑ دینا۔ــــ قَطْعًا و قَطِیْعَۃً رَحِمَہٗ: رشتہ داروں سے جدائی اختیار کرنا۔ــــ قَطِیْعَۃً السیِّدُ علی عبدہ: مالک کا اپنے غلام پر ٹیکس عائد کرنا، کہا جاتا ہے-قطعنی الثوبُ: کپڑا میرے قد کے لئے کافی ہے۔ــــ قُطُوْعًا وقِطَاعًا وقَطَاعَاتِ الطیرُ: پرندوں کا ٹھنڈے ممالک سے گرم ممالک کی طرف جانا صفت-قَوَاطِعُ ذَوَاھب او رَوَاجع قَطَعَ ـ قُطُوْعًا وقِطَاعًا و قَطَاعًا ماءُ البئر: کنویں کا پانی ختم ہونا یا کم ہونا-قَطِعَ ــ قَطَعًا و قُطْعًا وقَطْعَۃً و قُطَاعَات یدُہٗ: مرض کی وجہ سے یا کاٹنے سے کا ہاتھ جدا ہونا-قَطُعَ ـُ قَطَاعَۃً: کلام پر قادر نہ ہونا۔ــــ لسانُہٗ: زبان کی تیزی کا جاتا رہنا۔ قُطِعَ النفسُ: سانس کٹ جانا۔ــــ الرجُلُ: عاجز ہونا۔ یا ناامید ہونا۔ــــ بہ: آرزو پوری ہونے سے پہلے روکا جانا۔ صفت مقطوع بہ۔ قَطَّعَ الشیئَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ــــ الخمرَ بالماءِ: شراب میں پانی ملانا۔ــــ الفرسُ الخیلَ: گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں پر سبقت کرنا۔ــــ الفرسُ الجریَ: نشاط کی وجہ سے قسم قسم کی چال چلنا۔ــــ اللّٰہُ علیہ العذابَ: کو گوناں گوں عذاب دینا۔ــــ الشعرَ: شعر کی تقطیع کرنا، کہا جاتا ہے-قَطَّعَنِی الثَّوْبُ: کپڑا میرے قد کے لئے کافی تھا-ھٰذَا الثَّوْبُ یُقَطِّعُكَ قَمِیْصًا: یہ کپڑا تمہارے کرتے کے لئے کافی ہے، کہا جاتا ہے۔ قُطِّعَ فِیْ بَطْنِہٖ: اس کے پیٹ میں مروڑ ہوا-قَاطَعَ مُقَاطَعَۃً ہ: سے قطع تعلق کرنا۔ اسی سے ہے مقاطعۃ بلدٍ لحاصلات و منتجات بلد آخر و لکل معاملۃ معہ: ایک ملک کا دوسرے ملک کی پیداوار، مصنوعات اور اس کے ساتھ ہر قسم کے کاروبار کا بائیکاٹ کرنا۔

فلان فلانًا بسيفهما: ایک دوسرے کو تلوار دکھلانا کہ کس کی تلوار زیادہ کاٹ دار ہے۔ الاجيرَ على كذا و كذا من الاجر او العمل: سے اجرت پر کام طے کرنا۔ قاطعوا لحو مهم بالسيف: ایک دوسرے کے گوشت کو کاٹنا۔ اَقْطَعَ فلانًا: کو نہر عبور کرانا۔ ــــ ت الدجاجة: مرغی کا انڈے دینے سے رک جانا۔ ــ القومُ: قوم سے بارش کا منقطع ہو جانا۔ ــ الرجُلُ: لاجواب ہونا۔ ــ هُ بالحجة: کو دلیل سے خاموش کر دینا۔ ــــ عن اهله: اپنے اہل سے جدا ہونا۔ ــ ماءُ البئر: کنویں کا پانی ختم ہونا۔ ــ السماءُ بموضع كذا: کسی جگہ بارش رک جانا۔ ــــ هُ الحطبَ: کو لکڑی کاٹنے کی اجازت دینا۔ ــ الاميرُ الجندَ البلد: امیر کا فوجیوں کو کسی علاقہ کی پیداوار بطور رزق بنا دینا۔ قطعت النبيُّ: سے منقطع ہونا، کہا جاتا ہے۔ اَقْطَعَنِي الثوبُ: کپڑا میری قامت کے لئے کافی ہے۔ تَقَطَّعَ: کٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ ــ الظلُّ: سایہ سمٹنا، کم ہونا، ابتدائے دن میں سایہ لمبا ہوتا ہے اور جوں جوں آفتاب بلند ہوتا جاتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اور سمٹتا جاتا ہے۔ تَقَطَّعُوا بينهم اَمْرَهُمْ: اپنے درمیان معاملہ میں تفریق کر لینا، کہا جاتا ہے۔ تَقَطَّعَتْ علىٰ هذا الجوادِ اَعْنَاقُ الخيلِ: یعنی اس گھوڑے سے گھوڑوں کی گردنیں نہیں ملیں۔ تَقَاطَعَ الشيئُ: جدا جدا ہونا۔ تَقَاطَعَا: ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنا۔ اِقْتَطَعَ من المال قطعةً: سے کچھ لینا۔ ــــ مالَ فلانٍ: فلاں کے مال کو اپنے لئے لینا۔ ــ ما في الاناء: برتن کا سب کچھ پی لینا۔ اِنْقَطَعَ: کا وقت ختم ہونا، کہا جاتا ہے۔ اِنْقَطَعَ الحَرُّ اَوِ البَرْدُ: گرمی یا سردی کا وقت جاتا رہا۔ ــ الشيئُ: جدا ہونا۔ ــــ الغيثُ: بارش کا رکنا۔ ــ النهرُ: نہر کا خشک ہونا یا روک دیا جانا۔ ــــ اللبنُ: دودھ میں پانی کا حصہ خشک ہو جانا۔ ــــ ماءُ البئر: کنویں کا پانی ختم ہونا۔ ــــ لسانُهُ: زبان کی تیزی کا جاتا رہنا۔ الكلامُ: کلام کا رک جانا۔ ــ السيفُ: تلوار کا ٹوٹنا۔ ــــ الى فلان: سے خاص تعلق رکھنا۔ اُنْقُطِعَ بالمسافر: مسافر کی سواری کے جانور کا ہلاک ہونا یا اس کا زاد راہ کا ختم ہونا اور یوں سفر رک جانا۔ صفت مُنْقَطَعٌ به۔ اِسْتَقْطَعَهُ بلدًا او ثوبًا: سے جاگیر دینے کو کہنا، کپڑا قطع کرنے کو کہنا۔ اِقْطَوْطَعَ ت الطيرُ: پرندوں کا سرد سے گرم ممالک کی طرف جانا۔ القَاطِعُ: کاٹنے کا آلہ۔ نمونہ جس پر کپڑا وغیرہ قطع کیا جائے، (کہا جاتا ہے قُطِعَ

الاَدِيمُ علَى القَاطِعِ: چمڑا مطلق نمونہ پر قطع کیا گیا، روکنے والا۔ الدَوَاءُ القَاطِعُ: دوا جس کی طاقت ختم ہو گئی ہو۔ الطعامُ القاطعُ عند النصارى: ایسا کھانا جس میں نہ تو خشکی کے جانور کا گوشت ہو اور نہ ان میں سے کسی جانور کا دودھ ہو، اور ان کے نزدیک قاطع اسے کہتے ہیں جو گوشت اور دودھ سے پرہیز کرتا ہے۔ سيفٌ قاطِعٌ: قاطع تلوار۔ لبنٌ قاطِعٌ: کھٹا دودھ۔ برهانٌ قاطعٌ: یقین بخش اور زوردار دلیل۔ ــ قاطعُ التيّار: بوقت ضرورت برقی رو منقطع کرنے کا آلہ۔ قاطعُ النهر عند العامة: نہر کا دوسرا کنارہ۔ قاطعُ الطريقِ ج قُطَّعٌ وقُطَّاعٌ: ڈاکو، چور۔ القَاطِعَةُ ج قَوَاطِعُ: القاطع کا مونث۔ ــ طَيْرٌ قَوَاطِعُ: گرمی اور سردی میں ایک جگہ نہ رہنے والے پرندے۔ القَاطِعِيَّةُ (ت): استعمال سے ختم ہو جانے والے غلہ اور سامان وغیرہ کی مقدار۔ القُطْعُ: سانس رکنا۔ گرمی وغیرہ کی وجہ سے کنویں کے پانی کا انقطاع۔ پیٹ کا درد اور مروڑ۔ القَطْعُ (مص): بعض اعضاء جسم کی علیحدگی کہا جاتا ہے۔ الاَمْرُ وَاقِعٌ قَطْعًا: یہ کام قطعی ہے۔ القُطُوعُ المخروطية (ہ): اس کا واحد قَطْعٌ ہے۔ گول مخروطی سطح کے ٹکڑے۔ القِطْعُ ج اَقْطَاعٌ واَقْطُعٌ وقِطَاعٌ: نیزے کا چوڑا اور چھوٹا پھل، درخت کا کاٹا ہوا ٹکڑا۔ ــــ ج قُطُوعٌ و اَقْطَاعٌ: رات کا ایک ٹکڑا، سوار کے نیچے بچھانے کا ٹکڑا، ایک قسم کا منقش کپڑا، کہا جاتا ہے۔ ثَوْبٌ قِطْعٌ اَوْ اَقْطَاعٌ: یعنی کٹا ہوا کپڑا۔ القَطْعُ في الفرس: گھوڑے کی بعض رگوں کا کٹنا۔ القُطُعُ و القُطَعَةُ: رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا۔ القِطَعُ: دراہم۔ القَطِعُ: جس کی آواز بند ہو جائے۔ القُطْعَةُ: گرمی وغیرہ کی وجہ سے کنویں کے پانی کا انقطاع۔ ــ ج قُطَعٌ وقُطُعَاتٌ: کاٹا ہوا ٹکڑا، کاٹنے کی جگہ، زمین کا ٹکڑا جو کسی کو دینے کے لئے جدا کیا جائے، کٹے ہوئے ہاتھ کا بقیہ حصہ، سفید آٹا، سفید آٹے کا بھوسہ، کتاب وغیرہ کی فصل۔ قُطُعَاتُ الشَّجَرِ وقُطُعَاتُهَا: درخت کے کٹے ہوئے حصوں کی گانٹھوں کے اطراف جنہیں کاٹنے پر وہ دوبارہ نکل آئیں۔ القِطْعَةُ ج قِطَعٌ: چیز کا حصہ، ــــ من الشِّعْرِ: دس یا سات یا اس سے کم اشعار کی نظم۔ ــ قطعة الدائرة (ہ): دائرہ کی قوس اور اس کے وتر کے درمیان محصور سطح۔ القَطَعَةُ ج قَطَعٌ وقَطَعَاتٌ: کاٹنے کی جگہ، کٹے ہوئے ہاتھ کا بقیہ۔ قَطَعَاتُ الشَّجَرِ: درخت کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کی گانٹھوں کے اطراف جنہیں کاٹا جائے تو دوبارہ نکل

آتے ہیں۔ القِطَاعُ: رات کی پہلی تہائی، خصوصی قائد کی زیر نگرانی قلعہ، دراہم۔ ــ ج قِطَعَةٌ: کاٹنے کا آلہ۔ القَطَّاعُ: اسم مبالغہ، عمارتی پتھر کاٹنے والا۔ القُطَاعَةُ: کاٹنے میں جو گر جائے، کاٹا ہوا ٹکڑا، لقمہ جس میں سے آدھا کھا لیا جائے اور آدھا رہنے دیا جائے۔ القِطَاعَةُ في اصطلاح عامة النصارى: گوشت اور بعض کھانے کی چیزوں سے بعض مخصوص دنوں میں پرہیز۔ القَطُوعُ: بہت کاٹنے والا۔ ــ من النوق: اونٹنی جس کا دودھ جلدی سے ختم ہو جائے۔ اِمْرَاَةٌ قَطُوعٌ: کھڑے ہونے میں سست عورت۔ القَطِيعُ: پہلی تہائی رات۔ ــــ ج قُطْعانٌ و قِطَاعٌ واَقْطَاعٌ جج اَقَاطِيعُ: بکریوں اور چوپایوں وغیرہ کا گلہ۔ ــ ج قُطْعَانٌ و قِطَاعٌ واَقْطِعَةٌ واَقْطُعٌ و اَقَاطِيعُ و قُطُعٌ وقُطُعَاتٌ: چھڑی جس سے تیر بنایا جائے۔ درخت یا ٹہنی سے جو کاٹا جائے۔ ــــ ج قُطَعَاءُ واَقْطِعَاءُ: نظیر، مثیل جیسے هُوَ قَطِيعُهُ: وہ خلقت اور قد میں اس کے مشابہ ہے۔ رَجُلٌ قَطِيعٌ: سانس پھولا ہوا مرد، مونث قَطِيعٌ: چھڑی جس کے کنارے کاٹے ہوئے ہوں کہا جاتا ہے۔ هُوَ قَطِيعُ القِيَامِ: وہ بوجہ ضعف یا فربہی کے اٹھنے سے عاجز ہے۔ اِمْرَاَةٌ قَطِيعٌ: کھڑے ہونے میں سست عورت کہا جاتا ہے۔ اِمْرَاَةٌ قَطِيعُ الكَلَامِ: کم بولنے والی عورت۔ القَطِيعَةُ ج قَطَائِعُ: جدائی، دو علاقوں کے درمیان قطع تعلقی، وظیفہ، ٹیکس، جاگیر، کہا جاتا ہے۔ اِتَّقُوا القُطَيْعَاءَ: قطع تعلقات سے بچو۔ الاَقْطَعُ: کٹے ہوئے ہاتھ والا، بہرا، مونث قَطْعَاءُ ج قُطْعٌ وقُطْعَانٌ۔ رَحِمٌ قَطْعَاءُ: قطع تعلقات۔ الاِقْطَاعَةُ ج اِقْطَاعَاتٌ: فوجیوں کو دی ہوئی جاگیر۔ الاُقْطُوعَةُ: قطع تعلقات کی علامت کے طور پر وہ چیز جو ایک لڑکی دوسری کو بھیجے۔ التَقْطِيعُ (مص) ج تَقَاطِيعُ: پیٹ میں مروڑ۔ تَقْطِيعُ الرَّجُلِ: قد و قامت۔ المُقْطَعُ: جس کی حجت منقطع ہو گئی ہو۔ المُقْطَعُ: اجنبی، جس کا نام دیوان وظائف میں نہ ہو یا وہ شخص جس کے ہم عصروں کو ملے اور وہ محروم رہے۔ مُقْطَعُ النهرِ: دریا کی پایاب جگہ۔ المَقْطَعُ ج مَقَاطِعُ: کاٹنے یا کٹنے کی جگہ، حرکت دینے والا حرف یا دو حرف جس میں سے دوسرا ساکن ہو، کہا جاتا ہے۔ شَرَابٌ لَذِيذُ المَقْطَعِ: پینے کی چیز جس کا آخر خوشگوار ہو۔ مَقْطَعُ الحَقِّ: جس سے باطل منقطع ہو جائے۔ مَقْطَعُ الحَرْفِ: حرف کا مخرج یعنی حلق، زبان یا دونوں ہونٹ۔ مَقَاطِعُ الاَنْهَارِ: نہروں میں جہاں

گزر سکیں ۔۔۔ الکلام: وقف کرنے کے مواقع۔ المِقطَعُ: نمونہ جس پر چیز او غیرہ کاٹا جائے، کاٹنے کا آلہ۔ سَیفٌ مِقطَعٌ شمشیر براں۔ المِقطَاعُ: بھائی چارہ پر قائم نہ رہنے والا۔ بِئرٌ مِقطَاعٌ: کنواں جس کا پانی جلدی نیچے اتر جائے۔ مِقطَاعُ الکَلَامِ: وہ شخص جو لوگوں کو لاجواب کر دینے کا عادی ہو۔ قطع کلامی کا عادی۔ المَقطَعَۃُ: کاٹنے کی جگہ اور کاٹنے کا سبب، کہا جاتا ہے۔ اَلھَجرُ مَقطَعَۃٌ لِلوُدِّ: یعنی جدائی دوستی کے قطع کا سبب ہے۔ المُقَطَّعَۃُ و المُقَطَّعَاتُ: چھوٹے کپڑے اور یہ اسم جنس ہے اس کے لئے مفرد نہیں بلکہ سارے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو مُقَطَّعاتٌ اور مُقَطَّعَۃ کہتے ہیں۔ الثیاب المقطعۃ عند العامۃ چیتھڑے۔ المُقَطَّعَاتُ من الشِعرِ: چھوٹے اشعار یا رجز۔

مُقَطَّعَاتُ الشئی کسی چیز کے وہ طریقے جن کی طرف اس کی تحلیل و ترکیب ہو۔ المُتَقَطِّعُ: (فا) پست قد۔ غُرَّۃٌ متقطعۃ: پیشانی کی سفیدی جو نتھنوں سے بلند ہو کر آنکھوں تک پہنچے۔ الحمّی المتقطعۃ: (طب) باری کا بخار۔ المُنقَطِعُ: (فا) کہا جاتا ہے: ھُوَ مُنقَطِعُ العِقَالِ فِی الشَّرِّ: یعنی کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور کہا جاتا ہے۔ ھُوَ مُنقَطِعُ القَرِینِ: وہ بے نظیر ہے۔ المُنقَطِعُونَ عند النصاری: وہ فوت شدہ لوگ جن کے لئے دعا کرنے والا یا ان کے گناہوں کا کفارہ کرنے والا نہ ہو۔ المُنقَطَعُ من الوادی و نحوہ: وادی وغیرہ کا آخری سرا۔

○ قَطَعَ ۔ قَطعاً ہ درخت گرانا، تعلقات منقطع کرنا، ۔۔ ہ: کے ساتھ دوستی ختم کرنا، کا دل توڑنا۔ ۔۔ ہ/ہ: کی قطع کلامی کرنا، بات کاٹنا، بات میں مداخلت کرنا۔ ۔۔ ہ: برقی رو منقطع کرنا۔ ۔۔ ہ عن: کو سے باز رکھنا، پر کی قدغن لگانا، ممانعت کرنا، کو کچھ کرنے سے منع کرنا، کو سے محروم کرنا۔ ۔۔ ہ: کا حقہ پانی بند کرنا، کو ذات برادری سے باہر کرنا۔ ۔۔ فی: پر گہرا نقش کرنا، پر بہت اثر کرنا۔ ۔۔ ہ: (دریا کو) پایاب مقام سے عبور کرنا دریا یا سمندر) عبور کرنا، (ملک سے) گزرنا، ملک کے پار جانا (فاصلہ) طے کرنا، (خطرہ وغیرہ) سے بچ جانا (مشکل وغیرہ) دور کرنا، پر قابو پالینا۔ ۔۔ ہ فی کے ساتھ وقت گزارنا ۔۔ ہ: خوراک کھانا، پینا، کو برت ڈالنا۔ ۔۔ ہ/ب: کا فیصلہ کرنا۔ ۔۔ ب: کو یقین سے کہنا، وثوق یا زور سے کہنا، کا وثوق سے اعلان کرنا۔ ۔۔ بان دعوے سے کہنا کہ، ثابت کرنا کہ۔ قُطِعَ ٹوٹنا، ٹوٹ جانا، ٹوٹ کر جدا ہونا، قطع کلامی کیا جانا۔ قطع الامل (الرجاء) امید ترک کر دینا، مایوس ہو جانا۔ الثمنَ: قیمت مقرر کرنا، قیمت پر رضا مند ہو جانا۔ ۔۔ تَذکِرَۃً (بطاقۃً) ٹکٹ خریدنا، قطع علیہ حدیثَہُ: کی بات کاٹنا، قطع کلامی کرنا۔ قَطَعَ دوراً: کسی دور یا مدت سے گزرنا، مرحلہ جھیلنا، قطع برأیٍ: پختہ رائے ظاہر کرنا، کی رائے کے حق میں فیصلہ کرنا۔ قطع برایہ: کسی کی رائے یا فیصلہ کے مطابق کوئی طرز عمل اختیار کرنا۔ قطع الرَحِمَ: رشتہ داری کے بندھن منقطع کر دینا۔ قرابت داری کے قواعد کی خلاف ورزی کرنا۔ قطع اَشوَاطًا: ترقی کرنا، قطع شوطا کبیرا (بعیداً) فی التقدم (او الرُقِیِ): بہت ترقی کرنا، قطع علیہ الطریق کا راستہ منقطع کرنا، کی راہ میں حائل ہونا، کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا کی راہزنی کرنا۔ لا یقطع عقلَہُ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا یا اس پر یقین نہیں کر سکتا، یہ بات اس کے دماغ میں نہیں آئے گی۔ قطع عهداً معاہدہ کرنا، ۔۔ عهداً لِ سے وعدہ کرنا، عہد کرنا، عہد و پیمان کرنا۔ قَطَعَ علی نفسه عهداً ب او قطع الوعدَ علی نفسه ب کچھ کرنے کا عہد کرنا۔ قطع الکمبیالۃَ ہنڈی، بٹے پر بیچنا یا خریدنا۔ قطع لسانَہُ کو خاموش کر دینا، کی زبان بندی کرنا۔ قطع الوقت: وقت گزارنا، کاٹنا۔

قَطَّعَ ہ: کو ٹکڑوں میں کاٹنا، کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کا جوڑ جوڑ الگ کرنا، (گوشت) کھاتے وقت اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، کو چیرنا پھاڑنا، کو گہرا زخم لگانا۔ ہ: اپنے ہاتھوں پر گہرا زخم لگانا۔ ۔۔ قطع کلامی کرنا یُقَطِّعُ القَلبَ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا۔ قَاطَعَ ہ: سے علیحدہ ہو جانا، سے دوستی ختم کر دینا، کا دل توڑنا، سے اچھے تعلقات نہ ہونا۔ ۔۔ ہ/ہ: کا بائیکاٹ کرنا، سے لین دین ترک کرنا۔ ملنا جلنا ترک کرنا، کے سدراہ ہونا۔ ۔۔ ہ: کی بات میں بول اٹھنا۔ قاطعہ الحدیثَ: کی بات میں بول اٹھنا۔

اَقطَعَ ہ ہ: سے کچھ کٹوانا، کو کچھ کاٹنے دینا، کو دریا پایاب جگہ سے عبور کرانا یا عبور کرنے دینا، کو فوجی خدمت کے عوض کچھ بطور جاگیر یا معافی دینا، کو کچھ عطا کرنا۔ ۔۔ ہ: سے علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔ ۔۔ عن: سے دوستی ختم کرنا۔ تَقَطَّعَ: کٹ جانا، الگ ہونا، جدا ہونا، منقطع ہونا، ٹوٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، جیسے بکھرے ہونا، (برقی رو) کا وقفے والا ہونا، مسلسل بہاؤ والا نہ ہونا، (الفاظ، اسلوب)، کا بے ربط ہونا، وقتی طور پر ناکارہ ہو جانا تقطّعت بہ الحبال سراسر بے بس ہونا، کچھ نہ کر سکنا۔ تقطعت بہ الاسباب مزید کچھ نہ کر سکنا، بدحواس ہو جانا۔ ھدفٌ تتقطع دونَهُ الاعناق نا قابل رسائی ہدف۔ تَقَاطَعَ: جدا ہونا، الگ ہونا، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا، باہمی تعلقات ختم کرنا، ایک دوسرے کا دل توڑنا۔ ۔۔ مع: سڑکوں یا خطوط کا کسی چیز کو کاٹتے ہوئے گزرنا، کا متقاطع ہونا، سڑک یا خط کا دوسرے کو عبور کرنا، کاٹنا۔ اِنقَطَعَ من/عن سے علیحدہ ہونا، منقطع ہونا، ۔۔ منقطع ہونا، ٹوٹنا، جدا ہونا، کٹ جانا، بند ہو جانا، رک جانا، ختم ہو جانا، معطل ہونا۔ ۔۔ عن: کو کرنے سے رک جانا، کو چھوڑ دینا، سے باز رہنا، کو روک دینا، سے دستبردار ہونا، سے پرے رہنا۔ ۔۔ ل/الی: پر توجہ دینا، میں لگ جانا، کے لئے وقف ہو جانا، کو تن دہی سے کرنا، پر ہمہ تن متوجہ ہونا، میں مشغول یا لگا رہنا، کے لئے اپنا پورا وقت دینا۔ اِقتَطَعَ من: کا کچھ حصہ لینا۔ ۔۔ ہ من کو سے لینا، عاریتاً لینا، چننا، کا انتخاب کرنا، کو ایک ایک کر کے چننا، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا (مثال کے طور پر کتاب سے کہانی)۔ ۔۔ ہ من: کو سے پھاڑنا نکالنا (جیسے کتاب سے صفحہ) ۔۔ ہ: (کوپن) الگ کرنا، کو حاصل کرنا، علیحدہ اٹھا رکھنا، پر قابض ہونا، پر قبضہ کرنا، سے استفادہ کرنا۔ استقطع ہ ہ: سے کی بطور جاگیر درخواست کرنا۔ ۔۔ ہ: کوئی رقم مجرا کرنا، قَطع: تفریق، تنہائی، مجرائی، کٹوتی، چھوٹ (جمع اقطاع) کتاب کی تقطیع (جمع قطوع): سیکشن (جومیٹری)

قَطعًا: یقیناً، قطعاً، ٹھیک ٹھیک طور پر، وثوق سے، بے شک (نفی کے ساتھ) مطلقاً نہیں، قطعاً نہیں، کسی طرح بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ قطع الحسابات: حساب کی بے باقی، قطعُ الطریق: رہزنی، قزاقی، قطع الطریق علی: کی زبردستی رکاوٹ، قطعُ الماھیۃ: تنخواہ کی مجرائی، تنخواہ میں کمی۔ سِعرُ (معدّل) القطع: کٹوتی کی شرح، بینک کی شرح۔ قطع الرُبع: ایک تختہ کے چار ورق کی تقطیع۔ قطع کتبِ الجیب: جیبی سائز (کتاب) قطعُ مخروطٍ یا قطعٌ مخروطی: گاؤدم (مخروطی) سیکشن (جومیٹری) قطع زائد: قطعہ زائد، قطعہ ہذلولی (جومیٹری) قطع مُکافِئ: شکل شلجمی (جومیٹری) قطع ناقِص: بیضوی شکل (وہ ہندسی شکل جو مخروط کو ترچھا تراشنے سے بنتی ہے) (جومیٹری) قطعاً للوقت: تفریحاً، محض وقت گزارنے کے لئے۔ بِقَطعِ النظرِ عن سے قطع نظر، کے علاوہ۔ ھمزۃ القطع جدا کرنے والا ہمزہ۔

قَطعِی اٹل، طے شدہ، قطعی، یقینی، پس و پیش کے بغیر، حد بندی کیا ہوا، واضح، غیر مبہم، اثباتی، ایجابی، مثبت،

فیصلہ کن۔ قطعیاً: یقیناً، بالکل، قطعاً، صاف طور پر، واضح طور پر، پرزور طریقہ پر، صاف صاف، غیر مشروط طور پر۔ قطعیۃ: یقین، ایقان، یقینی امر، وضوح، قطعیت، ایجاب، اثبات۔ قِطعۃ جمع قِطَع: ٹکڑا، پرزہ، ریزہ، ڈھیلہ، ڈلا، ڈھیر، قاش، پھانک، حصہ، سیکشن، ڈویژن، قطعہ، سکہ، بحری یونٹ، یونٹ۔ قطعۃ الدائرہ یا القطعۃ الدائریۃ: دائرہ کا قطعہ (جومیٹری)۔ قطعۃ الترکیب: (مشین، آلات) کا حصہ۔ قطعۃ الازدواج: جوڑنے والا عنصر (بجلی) قطعۃ مسرحیۃ: سٹیج ڈرامہ۔ قطعۃ غِنائیۃ: نغمہ نگاری۔ قطعۃ غیار یا قطعۃ التغییر: سپیئر پارٹ۔ قطعۃ فَنّیۃ: تخلیقی چیز، فنکاری کا نمونہ۔ القطعۃ الکُرَویۃ: کروی قطعہ (جومیٹری) قطعۃ ممثلیۃ: ڈرامہ، سٹیج ڈرامہ۔ قطعہ موسیقیۃ: نغمہ نگاری، نغمہ گری، قطعۃ مالیۃ: سکہ، العمل بالقِطعِ: ٹھیکہ کا کام۔ قُطْعَۃ جمع قُطُعات و قُطَع: کٹا ہوا ٹکڑا، ٹکڑا، ٹھنٹھ، ٹنڈ، زمین کا قطعہ، زمین کا ٹکڑا۔ قَطَعۃ جمع قَطَعات و قَطَع: ٹھنٹھ، ٹنڈ قِطاع و قُطاع جمع قطاعات: حصہ، قطعہ (جومیٹری) قطاع عرضی: اندرونی منظر، اندرونی منظر کی تصویر القطاع الدائری: دائرہ کا قطعہ القِطاع الکُرَوِی: کروی قطعہ۔ قَطّاع: پتھر کاٹنے والا، لکڑیاں کاٹنے والا۔ بالقَطّاعِی: خوردہ فروشی سے۔ قطیعۃ: ناچاقی، جدائی، علیحدگی، افتراق، بے گانگی، کشیدگی، رنجش، رشتہ داروں میں دشمنی قطیعۃ الرَحِم: بمعنی بالا جمع قَطائِع: جاگیر، حق خدمت، جاگیردارانہ ریاست، تعلقہ، جاگیری زمین۔ اَقْطَع: زیادہ یقین بخش، زیادہ فیصلہ کن (مونث قَطْعاء)۔ ایک بازو والا، گونگا۔ مَقْطَع جمع مقاطِع: چوراہا، پایاب مقام، نقطہ، تقاطع، اندرونی منظر، اندرونی منظر کی تصویر، سیکشن، ڈویژن، رکن ہجی، گیت کا ٹکڑا، جانوروں کا ریوڑ، گلہ، مقطع الرأی: فیصلہ۔ مِقطع جمع مَقاطع: کاٹنے کا آلہ۔ مقطع السیجار: سگار و چرٹ، کاٹنے والا مقطع الورق: کاغذ کاٹنے کا چاقو، تقطیع: اراضی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تقسیم، حصے بخرے کرنا، بند بند جدا کرنا، انقطاع، توڑنا، مداخلت، خلل اندازی، قطع کلامی، خلل، رکاوٹ، قولنج، درد شکم، تقاطیع: شکل، صورت، قد و قامت، حصے، ارکان تقاطیع الوجہ: چہرہ مہرہ، چہرے کے خدوخال مُقاطَعَہ جمع مقاطعات: علاقہ، خطہ، حصہ، قطعہ، ضلع، صوبہ۔ اِقطاع و اِقطاعۃ جمع اِقطاعات: جاگیر، تعلقہ، جاگیرداری والی زمین۔ ذوالاقطاع: جاگیردار۔ اِقطاعی: جاگیردارانہ جمع اقطاعیون: جاگیردار۔ اقطاعیۃ: جاگیرداری الاقطاعیۃ: جاگیردارانہ نظام۔ اِنقطاع التیّار: بجلی کا انقطاع، بدون اِنقطاع یا من غیر انقطاع: مسلسل، لگاتار، پے در پے، دائماً، خلل اندازی کے بغیر۔ قاطِع: کاٹ دار، تیز، یقین بخش، زوردار، قوی معقول یا دل کو لگتی ہوئی (گواہی) ناقابل تردید، فیصلہ کن (ثبوت)، طے شدہ، فیصلہ شدہ، واضح، غیر مبہم، قطعی، صریح، آخری، فیصلہ کن، حتمی، غیر مشروط، کھٹا (دودھ)، خط قاطع، نصف دائرے اور مماس کا وتر (جومیٹری) جمع قواطع: پردہ، پارٹیشن، بصفۃٍ قاطعۃٍ: یقیناً سنّ قاطعۃ: اگلا دانت۔ طیر قَوَاطِع: خاص موسم میں نظر آنے والے پرندے۔ قاطع التذاکر: ٹکٹ فروش، کنڈکٹر۔ قاطِعۃ: برقی رو کا راستہ توڑنے والا، سرکٹ بریکر (بجلی) مقطوع بہ: طے شدہ، فیصلہ شدہ، ختم کیا ہوا، کر گزرا ہوا، (معاملہ وغیرہ) جمع مقاطیع: چھوٹی نظم۔ مقطوع النظیر: انوکھا، لاثانی، لاجواب، بے نظیر، مفرد، بے بدل۔ مقطوعۃ جمع مقطوعات و مقاطیع: ٹکڑا (موسیقی کا) مقطوعۃ موسیقیۃ: نغمہ نگاری، نغمہ گری، موسیقی کا ٹکڑا۔ بالمقطوعیۃ: سارا ایک ہی بار۔ یکمشت۔ مُتَقَطِّع: کٹا ہوا، پھٹا ہوا، منقطع، رک رک کر بہنے والی (برقی رو) مرحلہ وار (تحریک، حرکت) وقفہ دار، غیر مسلسل (آواز) بے ربط (الفاظ)، تیار متقطع: الٹی رو، بدلو رو۔ (AC= alternating current) مُنْقَطِع: کٹا ہوا، جدا کیا ہوا، علیحدہ کیا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا، ٹوٹا ہوا، روکا ہوا، منقطع (برقی رو) وقفہ دار، دور افتادہ (علاقہ)۔ — ل / اِلی: کے لئے وقف، نذر کیا ہوا، مخصوص، وقف کیا ہوا، مقرر یا مامور، منقطع النظیر و منقطع القرین: بے نظیر، یکتا، یگانہ، بے مثال، فقید المثال، منفرد۔ غیر مُنْقَطِع: لگاتار، مسلسل، غیر منقطع، پے در پے، متواتر مُسْتَقْطَع: کٹوتی (تنخواہ سے) مجرا شدہ رقم۔

قطف: ۱۔ قَطَفَ ـِ قَطْفًا و قَطَّفَ ہُ: پرخراش کرنا۔ القَطَفُ ج قُطُوْفٌ: اثر، نشان۔ القَطْفُ (مص) ج قُطُوْفٌ: خراشنا، خراش۔

۲۔ قَطَفَ ـِ قَطْفًا الثمر: پھل چننا۔ — الشیئَ: کو اچک لینا۔ — مَعْسَلَتَہُ: چھتہ سے شہد نکالنا۔ قَطَّفَ الثمرَ: پھل چننا۔ — الشیئَ: کو اچک لینا۔ — [illegible] الجزّارُ اللحمَ: قصائی کا گوشت سے ہڈیاں نکالنا اَقْطَفَ الکرمُ: انگور توڑنے کے قابل ہونا۔ اِقتطَفَ الثمرَ: پھل چننا۔ — الشیئَ: کو اچک لینا۔ — الکلامَ: کلام کا خلاصہ کرنا۔ القِطْفُ ج قِطَافٌ و قُطُوْفٌ: توڑا ہوا پھل، انگوروں کا خوشہ۔ (توڑنے کے وقت) القِطَافُ و القَطَافُ: پھل توڑنے کا موسم، چننا۔ القُطَافَۃُ: انگور توڑتے وقت جو گر پڑے۔ القَطِیْفُ: توڑا ہوا۔ المَقْطَفُ ج مَقَاطِفُ: ٹوکری جس میں پھل چنا جائے، المِقْطَفُ: قینچی جس سے پھل کاٹا جائے، خوشہ کی جڑ آٹا چھاننے کی چھلنی۔

۳۔ قَطَفَ ـُ قِطَافًا و قُطُوْفًا الفرسُ وغیرُہُ: گھوڑے وغیرہ کا آہستہ آہستہ چلنا۔ اَقْطَفَ الرجُلُ: سست رفتار جانور کا مالک ہونا۔ القَطُوْفُ من الدوابّ ج قُطُفٌ: سست رفتار جانور۔

۴۔ القَطَفُ (ن): سبزی واحد قَطَفَۃٌ (ن) پہاڑی درخت جس کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے۔ القِطْفَۃ (ن): ایک خاردار سبزی جس کا اندرونی حصہ سرخ اور اس کے پتے خاکستری ہوتے ہیں۔ القَطِیْفَۃ (ن): ایک قسم کی نباتات جسے سالف العروس بھی کہتے ہیں اس کی کئی اقسام ہیں اس کے تنہ پتے اور پھول ارغوانی رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کی ایک قسم (قطیفۃ الذیل) کا پودا تزئین و آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔ القَطِیْفَۃ ج قُطُفٌ و قَطَائِفُ: روئیں دار چادر القَطَائِفُ: میٹھی ٹکیا، میٹھی روٹی المُقَطَّفَۃ: پست قد مرد۔

قطل: ۱۔ قَطَلَ ـُ قَطْلًا الشیئَ: کو کاٹنا۔ — عُنُقَہُ: کی گردن پر مارنا۔ قَطَّلَ الشیئَ: کو کاٹنا۔ — ہُ: کو پچھاڑنا یا ایک پہلو پر گرا دینا۔ تَقَطَّلَ الجذعُ: تنہ کا جڑ سے کٹنا۔ القَطْلُ و القَطِیْلُ من الشجر و نحوہ: کٹا ہوا درخت وغیرہ کہا جاتا ہے۔ نَخْلَۃٌ قَطِیْلٌ وَجِذْعٌ قُطْلٌ و قَطِیْلٌ: یعنی جڑ سے کٹا ہوا کھجور کا درخت اور تنہ۔ القَطِیْلَۃُ: جھاڑن جس سے پانی وغیرہ خشک کیا جائے۔ المِقْطَلَۃُ ج مَقَاطِلُ: کاٹنے کا لوہا۔ المُقَطَّلُ (مفع): پکا ہوا۔

۲۔ القَطْلَبُ: واحد قَطْلَبَۃٌ: (ن): ایک درخت جس کے پتے متناسب، بڑے اور بیضوی شکل کے اور پھول سفید گھنٹی کی شکل کے اور پھل انگور جیسے ہوتے ہیں اس کی ایک قسم جسے القطلب العثکولی کہتے ہیں مشرق قریب کے ممالک میں بکثرت ہوتی ہے۔

○ قَطَفَ ـِ قَطْفًا و قُطُوْفًا ہ: (پھول، پھل) چننا، توڑنا، (پھل) جمع کرنا، پھلوں کی کٹائی کرنا (پتے وغیرہ) توڑنا، (ملائی، پپڑی) اتارنا۔ قَطَفَاہ پر

خراش ڈالنا۔ قَطَفَ بمعنی قَطَفَ اِقْتَطَفَ ہ: (پھول، پھل) چننا، توڑنا، (پھولوں کو) جمع کرنا، (پھولوں کی) کٹائی کرنا۔ ۔ ہ کو توڑنا۔ ۔ ہ من: میں سے کوئی چیز منتخب کرنا۔ قَطْف: چننا، توڑنا، وغیرہ قُطُوف۔ خراش۔ قِطْف: چنا ہوا، پھل، توڑا ہوا پھل، قِطَاف چننا، جمع کرنا، پھلوں کی کٹائی، کٹائی کا موسم، دَانِی الْقُطُوف: رسائی میں، موجود، استعمال میں آسان، برتنے میں سہل، قریب ہی، قَطُوف جمع قُطُف چھوٹے قدموں والا، آہستہ، سست، قَطِیفَة: مخمل، پلش۔ قَطَائِف وقَطَایِف (جمع) چھوٹی تکونی میٹھی ٹکیاں، جو پگھلے ہوئے مکھن میں تلی جاتی ہیں۔ مِقْطَف جمع مَقَاطِف۔ پھل چننے کا آلہ، چاقو مَقْطَف جمع مَقَاطِف: ٹوکری۔ مُقْتَطَف جمع مُقْتَطَفَات: منتخب ٹکڑا، انتخاب، چنی ہوئی چیزیں۔ قَطْقُوطَة: نوجوان لڑکی۔ قَطَلَ ـُ قَطْلًا و قَطَّلَ ہ: کو روکنا، آگے نہ بڑھنے دینا۔ قِطِیلَة: تولیہ، فرش صاف کرنے کا کپڑے کا چھوٹا ٹکڑا، صافی، تولیہ۔

قطم: ۱۔ قَطِمَ ـَ قَطَمًا اللحمَ وغیرَہُ: گوشت وغیرہ کا خواہشمند ہونا۔ قَطِمَ ـَ قَطَمًا: گوشت وغیرہ کا خواہش مند ہونا صفت قَطِمٌ۔ القُطَامُ (ح) شکرا، گوشت کا شوقین شکرا۔ القَطَامِیُّ و القُطَامِیُّ (ح): تیز نظر کا شکرا جو شکار کی طرف نظر اٹھائے رہتا ہے۔ رَجُلٌ قَطَامِیٌّ: معاملات میں خودسر مرد۔ المِقْطَمُ ج مَقَاطِمُ: چنگل۔

۲۔ قَطَمَ ـِ قَطْمًا ہ: کو دانت سے کاٹ کر چکھنا۔ ۔ العُودَ: کو دانت سے کاٹ کر سختی، نرمی محسوس کرنا۔ ۔ الشیئَ: کو کاٹنا۔ قَطَمَ الشاربُ: پینے والے کا شراب چکھنا اور منہ بنانا۔ القُطَامَةُ: جو منہ سے کاٹا جائے پھر پھینک دیا جائے۔ القِطَامِیُّ و القُطَامِیُّ: تیز شراب۔ القَطِمُ: غضبناک۔ القَطِیمَةُ: دودھ جس کا ذائقہ متغیر ہو گیا ہو، ٹکڑا، غلہ کا ایک لپ کہا جاتا ہے شَیْئٌ مُزُّ المَقْطَمِ: مزے کے لحاظ سے کھٹی میٹھی چیز۔

۳۔ القِطْمَارُ و القِطْمِیرُ (ز): کھجور کی گٹھلی اور پھل کے درمیان باریک چھلکا، کہا جاتا ہے مَا اَصَبْتُ مِنْہُ قِطْمِیرًا: یعنی میں نے اس سے کچھ نہیں پایا۔

○ قَطْمَة: ٹکڑا، لقمہ، نوالہ۔ المُقَطَّم: قاہرہ کے مشرق میں پہاڑی سلسلہ۔ لایملك قِطْمِیراً: وہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں۔

قطن: ۱۔ قَطَنَ ـُ قُطُونًا فی المکان وبہ: میں اقامت کرنا، کو وطن بنانا۔ ۔ الرجلَ: کی خدمت کرنا۔ قَطَّنَ ہُ بالمکان: کو میں اقامت کرانا۔ القَاطِنُ (فا ج قُطَّانٌ و قَاطِنَةٌ و قَطِینٌ): کسی جگہ مقیم قَاطِنَاتُ مَکَّةَ و قُطُنُہَا: مکہ کے کبوتر۔ القَطَنُ (مص) ج اَقْطَانٌ: اقامت کی جگہ۔ القَطَانَةُ: ہانڈی۔ القُطْنِیَّةُ و القِطْنِیَّةُ ج قَطَانِیٌّ: دانے جو پکائے جائیں جیسے مسور، چنا وغیرہ۔ القَطَانِیَاتُ: اس کے لئے قرنیات کا لفظ ملاحظہ کریں۔ القَطِینُ القَاطِنُ کی جمع، کسی جگہ مقیم، گھر کے لوگ، خادم، نوکر چاکر (واحد و جمع) یا ج قُطُنٌ کہا جاتا ہے: ھؤلاءِ قَطِینُ فُلَانٍ یعنی یہ لوگ فلاں کے نوکر چاکر ہیں۔ و قَطِینُ اللّٰہِ: اللہ کے حرم کے رہنے والے لوگ۔ القَطِینَةُ: گھر کے رہنے والے۔

۲۔ قَطِنَ ـَ قَطَنًا ظہرُہُ: کی پیٹھ کا جھکنا صفت اَقْطَنُ۔ القَطَنُ ج اَقْطَانٌ: پشت انسانی کا پست اور ہموار حصہ۔

۳۔ قَطَّنَ الکرمُ: انگور کی بیل کا شگوفہ دار ہونا۔ ۔ الطعامُ و نحوہ عند العامة: کھانے وغیرہ کا بدبودار ہونا، باسی ہونا۔ القُطْنُ: ایک ٹکڑے کو قُطْنَة کہتے ہیں بعض اوقات اس کی جمع اَقْطَانٌ آتی ہے (ن): کپاس، روئی۔ القُطُنُ (ن): کپاس روئی، القَطَّان: روئی فروش۔ القُطْنِیَّةُ القُطُنِیَّةُ: روئی کے بنے ہوئے کپڑے۔ القَیْطَانُ: ریشم وغیرہ سے جوری کی مانند بنا جائے۔ المَقْطَنَة: زمین جس میں کپاس بوئی جائے۔

۴۔ القَطَنُ ج اَقْطَانٌ: پرندہ کی دم کی جڑ، دونوں سرینوں کے درمیان۔ القِطْنَةُ: اوجھ کا پرت دار حصہ۔ القَطِنَةُ: اوجھ کا پرت دار حصہ سرینوں کے درمیان کا گوشت۔ القِطَانُ ج قُطُنٌ: ہودج کی لکڑی۔ الیَقْطِینُ واحد یَقْطِینَةٌ (ن): بیل والی نباتات جیسے کھیرا، ککڑی وغیرہ، یہ کدو کے لئے اکثر مستعمل ہے۔

قطو: ۱۔ قَطَا ـُ قَطْوًا: بوجھل چال سے چلنا۔ ۔ الماشی: آہستہ چلنا یا نشاط سے چلنا۔ ـ ت القطا: قطا کا آواز کرنا۔ تَقَطَّی: دیر کرنا۔ اِقْطَوْطَی: آہستہ چلنا یا نشاط سے چلنا۔ القَطَاةُ ج قَطًا و قَطَوَاتٌ و قَطَیَاتٌ (ح): کبوتر کے برابر ایک پرندہ، جو رہنمائی کرنے میں ضرب المثل ہے کہا جاتا ہے۔ اَھْدٰی مِنَ القَطَا: اور کہا جاتا ہے ذَہَبُوْا فِی الْاَرْضِ بَقَطًا: زمین میں متفرق ہو گئے۔ القَطَوَانُ و القَطَوَانُ: آہستہ چلنے والا۔ القَطَوْطَی: آہستہ چلنے والا لمبی ٹانگوں والا۔ تَقَطَّی الفرسَ: گھوڑے کے پیچھے پر سوار ہونا۔ القَطَاةُ من الدابة: چوتڑ، ردیف کے بیٹھنے کی جگہ، دونوں سرینوں کے درمیان۔

۳۔ تَقَطَّی لاصحابہ: ساتھیوں کو فریب دینا۔ ۔ بوجہہ عنہ: سے روگردانی کرنا، اعراض کرنا۔

قع: ۱۔ قَعَّ ـُ قَعَاعَةً: سے بے باکی سے گفتگو کرنا۔ اَقَعَّ القومُ: کھودنا اور کھاری پانی پر بھیڑ کرنا۔ القُعُّ و القُعَاعُ من المیاہ: بہت زیادہ کھاری پانی جس سے زیادہ کھاری پانی نہ ملے۔

۲۔ قَعْقَعَ قَعْقَعَةً السلاحُ: ہتھیار کا آواز نکالنا، کی جھنکار ہونا۔ ۔ الشیئَ الیابسَ: کو آواز کے ساتھ حرکت دینا۔ ۔ القداحَ: تیروں کو جوئے میں گھمانا۔ ـ ت عُمُدُہُم: کوچ کرنا۔ ۔ فی الارض: جانا، کہتے ہیں۔ فلان ما یُقَعْقَعُ لَہُ بالشِنَانِ: فلاں کو حوادثات زمانہ گھبراہٹ میں نہیں ڈال سکتے۔ تَقَعْقَعَ: مضطرب ہونا۔ حرکت کرنا، حرکت کے وقت آواز کرنا۔ ـ ت عُمُدُہُم: کوچ کرنا۔ القُعْقُعُ (ح): سفید اور سیاہ دو رنگوں والا کوا جس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ القَعْقَاعُ: ہتھیار کی جھنکار، آواز، خشک کھجور، شدید بخار جو داڑھوں پر اثر انداز ہو، راستہ جس پر مشقت سے چلا جائے۔ ۔ و القُعْقُعَانِیُّ: چلتے وقت پاؤں کے جوڑوں کے چٹانے نکلنے کی آواز والا۔ القَعْقَعَةُ: دانتوں کے رگڑنے کی آواز۔ القَعَاقِعُ قَعْقَعَةٌ کی جمع لگاتار گرج کی آوازیں۔ القُعَاقِعُ: بہت آواز والا۔

قعب: ۱۔ قَعَّبَ فلانٌ فی الکلام: حلق کے انتہائی حصہ سے بولنا۔ ۔ الحافرُ: سم کا گنبد دار ہونا۔ القَاعِبُ: بلبلانے والا بھیڑیا۔ القَعْبُ ج اَقْعُبٌ و قِعَابٌ و قِعَبَةٌ: بڑا پیالہ۔ قَعْبُ الکلامِ: کلام کی گہرائی۔ القُعْبَةُ: پہاڑ کا گڑھا۔ القَعِیبُ: عدد کثیر۔

۲۔ القَعْبَلُ: دودھ دوہنے کا پیالہ، درشت خو مرد۔ ۔ و القِعْبِلُ (ن): سانپ کی چھتری کی ایک قسم، (ن): ایک نباتات جو زمین سے اگے۔

قعث: ۱۔ قَعَثَ ـُ قَعْثًا و قَعْثَةً لہ من الشیئ: کو لپ بھر چیز دینا۔ اَقْعَثَ فی مالہ: میں فضول خرچی کرنا۔ ۔ لہُ العطیةَ: کو بہت عطیہ دینا۔ اِقْتَعَثَ الحافرُ: کھودنے والے کا کنویں سے بہت مٹی نکالنا۔ ۔ لہُ العطیةَ: کو بہت عطیہ دینا۔ القَعِیثُ: موسلا دھار بارش بھرا سیلاب۔

۲۔ قَعَثَ ـَ قَعْثًا و قَعْثَةً و قَعَّثَ الشیئَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ اِنْقَعَثَ: جڑ سے اکھڑنا۔ ۔ الحائطُ: دیوار کا جڑ سے گرنا۔

۳۔ القَعِیثُ: آسان۔

○ قُطْن و قُطُن جمع اَقْطان: کپاس، روئی، قطن خام خام روئی، نہ بیلی ہوئی روئی۔ دھنی ہوئی روئی قطن

سکارتو: سوت کا گوڑر، قطن طبی: چوسنے والی روئی۔ قطن مُلْتَهِب: تیزابی روئی۔ حطب القطن: لکڑی کی ہلکی چھپٹیاں (پیکنگ کی Excelsior) مِحْلَج القطن: کپاس بیلنے کی مشین، بیلن۔ قُطْنِي: کپاس کا، روئی کا۔ قُطْنِية و قِطْنِيَة جمع قَطَانِي: دال (جیسے مسور، پھلی کے دانے وغیرہ) قُطانية و قِطانِيَة: کمی۔ قَطَّان: روئی کا تاجر، روئی کا کارخانہ دار۔ يَقْطِين: (واحد يَقْطِينَة: ایک قسم کا کدو۔ مَقْطَنَة: کپاس کے کھیت۔ قَاطِن جمع قُطَّان: مقیم، باشندہ، ساکن، متوطن، رہنے والا۔ قِيطان: ڈوری، طناب، تسمہ، لیس، جھالر جمع قياطين۔

قعد ا۔ قَعَدَ ـُ قُعُودًا و مَقْعَدًا: کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنا۔ قُعُودًا: کھڑا ہونا۔ ــ به: کو بٹھانا۔ ــ ت الفسيلة: پودے کا تناوالا ہونا۔ یہ صار اور طفق کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے قعد يشتمني: اس نے مجھے گالیاں دینا شروع کیں۔ قَاعَدَ مُقَاعَدَةً هُ: دوسرے کے ساتھ بیٹھنا۔ اَقْعَدَهُ: کو بٹھانا۔ بالمكان: میں اقامت کرنا۔ ــ الرجُلَ: کو کھڑا کرنا۔ ــ البئرَ: کنواں بیٹھنے کے لائق کھودنا اور پانی تک نہ پہنچانا۔ اُقْعِدَ: قعاد کی بیماری والا ہونا (قعاد ایک بیماری ہے جس میں آدمی چلنے پھرنے سے معذور رہتا ہے)۔ اِقْتَعَدَ الدابّةَ: چوپایہ کو سواری بنانا۔ القَاعِدُ (فا) ج قُعُودٌ: غلے سے بھرے ہوئے گون۔ القَاعِدَةُ ج قَوَاعِدُ: القاعد کی مونث، (ع ج): ریاضی کا قانون جبریہ، جسے دستور یا قانون بھی کہا جاتا ہے (لک) اَسَاسٌ ملاحظہ کریں۔ ــ من البيت: گھر کی بنیاد۔ ــ من الهودج: ہودج کی لکڑی۔ ــ من البلاد: ملک کا سب سے بڑا شہر، اس سے ہے۔ قاعدة الطائرات: ائرپورٹ، ہوائی اڈہ۔ ــ فی الاصطلاح: اصلی کلی جو سارے جزئیات پر منطبق ہو۔ ــ عند الكتاب: خط کی تعلیم کا نمونہ۔ ــ قاعدة التمثال: وہ بلند چبوترہ وغیرہ جس پر مجسمہ نصب کیا جائے۔ القُعْدَةُ ج قُعُدَاتٌ: بیٹھنے کی چیز، زین وغیرہ۔ (ح): گدھا۔ ــ من الابل: چرواہے کیلئے ہر حاجت میں سواری کا اونٹ۔ القَعْدَةُ: قعد سے اسم مرہ: انسان کے لئے سواری، غالیچہ۔ ــ و القِعْدَةُ: جگہ جو بیٹھنے والا گھیرے ذو القَعْدة وذو القِعْدَة: قمری مہینوں میں سے گیارہواں مہینہ۔ بِئْرٌ قِعْدَةٌ: بیٹھنے والے انسان کے حصہ جتنا اونچا کنواں القُعَدَةُ: بہت بیٹھنے والا، کہا جاتا ہے۔ هُوَ قُعَدَةٌ ضُجَعَةٌ: وہ بہت بیٹھنے اور لیٹنے والا ہے یعنی بہت کاہل اور سست ہے۔ القَعَدَةُ: سواری، غالیچہ۔

الاُقْعَادُ و القُعَادُ (طب): ایک بیماری ہے، جس کو یہ لاحق ہو جاتی ہے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ القِعَادُ: بیوی۔ القُعْدِيُّ: بہت بیٹھنے والا، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ قُعْدِيٌّ ضُجْعِيٌّ: بہت بیٹھنے اور لیٹنے والا مرد، عاجز، جس کا بیٹھا رہنے کو ہی جی چاہے۔ القُعْدِيَّةُ و القِعْدِيَّةُ: بہت بیٹھنے والا مرد۔ القَعَدِيُّ ج القَعَدِيَّةُ: اپنے مسلمان دشمنوں کے درمیان رہنے والا خارجی القَعُودُ ج اَقْعِدَةٌ و قُعُدٌ و قِعْدَانٌ و قَعَائِدُ: دوسرا ہونے تک والدین کا پہلا بچہ۔ اونٹنی یا گائے کا بچہ جو ماں سے علیحدہ کیا گیا ہو۔ و القعود ج اَقْعِدَةٌ و قُعُدٌ و قِعْدانٌ و قَعَائِدُ من الابل: اونٹ جس کو چرواہا ہر ضرورت کے موقع پر استعمال کرے۔ القَعِيدُ واحد، جمع مذکر اور مونث کے لئے۔ ہم نشین، ٹڈی جس کے پر اچھی طرح نہ نکلے ہوں۔ نگہبان، کہا جاتا ہے قَعِيدَكَ اللّٰهَ و قَعْدَكَ اللّٰهَ: اللہ تیری حفاظت کرے، اور کہا جاتا ہے فلانٌ قعيدُ النسب: فلاں قریب النسب ہے۔ ــ قَعِيدا كُلِّ اَمْرٍ: دائیں بائیں کے محافظ۔ القَعِيدَةُ ج قَعَائِدُ: عورت، بیٹھنے کی چیز، بورا وغیرہ۔ القُعَيْدُ: قَعُودٌ کی تصغیر، اس سے مثل ہے۔ اِتَّخَذُوهُ قُعَيْدَ الْحَاجَاتِ: جب کہ کسی شخص سے ساری ضرورتوں میں کام لیں۔ الاَقْعَدُ النَّسَبِ: مورث اعلیٰ سے قریب النسب۔ المُقْعَدُ: قعاد کی بیماری والا۔ (ح): گدھ کا بچہ، ابھری ہوئی پستان، کہا جاتا ہے فلانٌ مُقْعَدُ الاَنْفِ: یعنی اس کے نتھنے کشادہ ہیں اور کہا جاتا ہے۔ فُلانٌ مُقْعَدُ الْحَسَبِ: فلاں شرف والا نہیں ہے۔ المُقْعَدَةُ: المُقْعَد کی مونث، کنواں جسے کھودا گیا ہو اور پانی نکلنے پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ المُقْعَدَاتُ (ح): قطا کے بچے اڑنے سے پہلے۔ (ح): مینڈکیں۔ المَقْعَدُ ج مَقَاعِدُ: بیٹھنے کی جگہ، المَقْعَدَة: بیٹھنے کی جگہ، شخص کا نچلا حصہ، پاخانہ کرنے کا برتن۔

۲۔ قَعَدَ ـُ قُعُودًا عن حاجته: سے پیچھے رہنا۔ ــ ت النخلةُ: دوسرے سال پھل دینا کہا جاتا ہے قَعَدَ بِي عَنْكَ شُغُلٌ: مجھے تم سے کام کاج نے روک دیا۔ قَعَّدَهُ عن كذا: کو سے روک دینا۔ اَقْعَدَهُ عن الامر: کو سے روک دینا۔ تَقَعَّدَ: توقف کرنا۔ ــ هُ: سے ٹال مٹول کرنا۔ ــ عن الامر: کام کا مطالبہ ترک کر دینا۔ تَقَاعَدَ به فلانٌ: کا حق ادا نہ کرنا۔ اِقْتَعَدَ کہا جاتا ہے۔ مَا اقْتَعَدَكَ عَنْهُ: کس چیز نے تمہیں اس سے روکا۔ القَعَدُ: وہ لوگ جو شریک جنگ نہ ہوں، خوارج۔ القُعْدُدُ: بزدل، کمینہ، مکارم اخلاق سے باز رہنے والا، گم نام۔ رَجُلٌ قُعْدُدَةٌ: بزدل۔

۳۔ قَعَدَ ـُ قُعُودًا فلانٌ بقرنه: ہمسر کا جوڑ ہونا۔ ــ للحربِ: جنگجو لوگوں کو جنگ کے لئے تیار کرنا۔ القَعَدُ: فوجی لوگ جن کی تنخواہ مقرر نہ ہو۔

۴۔ قَعَدَ ـُ قُعُودًا ت المرأةُ: عورت کے شوہر کا لاپتہ ہونا۔ القَاعِدُ ج قُعُودٌ: وہ عورت جس کا لڑکا اور شوہر کوئی نہ ہو۔

۵۔ قَعَدَ ہُ: کی خدمت کرنا، کہا جاتا ہے۔ قَعَّدَ اَبَاهُ: اس نے اپنے باپ کو بٹھا دیا، کسب رزق کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ ــ رجل: کی خدمت کرنا۔ ــ اَبَاهُ: کو کسب رزق کے بوجھ سے آزاد کرنا۔ تَقَعَّدَهُ: کا کام کرنا۔ تَقَاعَدَ فلانٌ فی الاصطلاح: ریٹائرڈ ہو جانا، ماہانہ پنشن پانا۔

۶۔ القَعِيدُ: پرندہ یا ہرن جو تمہارے پیچھے سے آئے اور اس سے بدفالی کی جائے (یہ نطیح کے خلاف ہے)۔

۷۔ القُعْدُدُ و القُعْدَدُ و القُعْدُودُ: مورث اعلیٰ سے قریب النسب، مورث اعلیٰ سے بعید النسب (ضد)۔

○ قَعَدَ ـُ قُعُودًا: بیٹھ جانا، بیٹھنا، بیٹھا ہوا ہونا، بیٹھا رہنا، رہنا، ٹھہرنا، اقامت گزین ہونا۔ ــ ل: کی گھات میں بیٹھنا، کی رہزنی کرنا۔ ــ عن: سے باز رہنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، سے قطع تعلق کرنا، دستبردار ہونا، دستکش ہونا۔ ــ به: کو بٹھانا، کو ٹھہرنے کی ترغیب دینا، کو بے بس کر دینا۔ قعدت به رُكْبَتَاهُ: اس کے گھٹنے اس کے نیچے مڑ گئے قعد به عن: کو سے روکنا منع کرنا، قعد عن الذهاب: اس نے نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ قَامَ وقَعَدَ: سخت پریشانی میں ہونا، بہت مضطرب ہونا۔ ــ ل: سے بہت دہشت زدہ ہونا۔ اَقْعَدَهُ: کو بٹھانا، کو ٹھہرنے کی ترغیب دینا۔ ــ ہ عن: کو سے روکنا، باز رکھنا۔ ــ من: کوئی چیز کم کرنا۔ اُقْعِدَ: لنگڑا ہونا۔ اَقَامَهُ و اَقْعَدَهُ: کو سخت پریشان کرنا، کو سخت جذباتی حالت میں ڈال دینا۔ اَقْعَدَ من هِمَّتِهِ: کا جوش ٹھنڈا کرنا۔ تَقَعَّدَ عن: کا متمنی نہ ہونا، کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، سے باز رہنا۔ تَقَاعَدَ: بمعنی تَقَعَّدَ نیز تَقَاعَدَ عن: سے احتراز کرنا۔ ــ: ریٹائر ہونا، پنشن پر جانا۔ اِقْتَعَدَ ہ: کو نشست کے طور پر لینا یا استعمال کرنا، پر بیٹھنا، کی حالت میں ہونا یا رہنا۔ قَعَد: جنگ کے زمانہ میں فوجی خدمت میں کام چور، خوارج کا لقب۔ قَعْدَة: بیٹھنا، چوتڑ، بیٹھنے کی جگہ، وہ جگہ جس پر کوئی بیٹھا ہو۔ ذو القعدة: اسلامی سال کا گیارہواں مہینہ۔ قِعْدَة: بیٹھنے کا انداز، وہ جگہ جس پر کوئی بیٹھا ہو، بیٹھنے کی جگہ قُعَدة: بیٹھا رہنے والا،

مضبوطی سے بیٹھا ہوا، ست، بے حس و حرکت، آرام طلب، نکما۔ قُعْدِی: بیٹھا رہنا والا، مضبوطی سے بیٹھا ہوا، ست، بے حس و حرکت، آرام طلب، نکما قَعُود ج اَقْعِدَة و قُعُد و قِعْدان و قَعَائِد: نوجوان اونٹ۔ قَعود: بیٹھنا۔ ـــ عن ـ سے باز رہنا، سے دستبرداری، دستکشی۔ قَعِید: ساتھی، ہم جلیس، نگران، لنگڑا لولا، کمزور، ضعیف۔ قعیدُ المَنْزِل: گھر تک محدود قعیدة: سہیلی، بیوی۔ مَقْعَد ج مَقَاعِد: بیٹھنے کی جگہ، نشست، کرسی، بنچ، صوفہ، بکس (سینما، تھیٹر کا)۔ ڈرائیور کے بیٹھنے کی جگہ۔ مقعد مُرِیح: آرام کرسی، بازوؤں والی کرسی۔ مَقْعَدَة ج مَقَاعِد: چوتڑ۔ تَقَاعُد: پابندی، کم گوئی، خاموشی، علیحدگی، جھجک، ریٹائرمنٹ، مَعَاش التقاعد: پنشن۔ اُحِیْلَ الی التقاعد: پنشن پر بھیجا جانا۔ ریٹائر ہونا۔

قَاعِد ج قُعُود و قُعَّاد: بیٹھا ہوا، ست۔ قاعد عن العمل: بے کار، یونہی پڑا ہوا، کاہل، بے عمل۔ قاعِدُون: جنگ کے زمانہ میں فوجی خدمت میں کام چور فوجی۔ قَاعِد ج قَوَاعِد: زیادہ عمر ہو جانے سے جننا بند کرنے والی عورت۔ قاعِدَة ج قَوَاعِد: بنیاد (عمارت کی) بنیاد، قاعدہ (جومیٹری) مرکز (فوجی)، پایہ، موٹر وغیرہ کا نچلا ڈھانچہ، اصول اخلاق، قاعدہ، اصول، گر، فارمولا، طریقہ، طرح، نمونہ۔ قَاعِدَةُ الأُسْطُول او قاعِدَة بحرية: بحریہ کا مرکز۔ قاعِدَةُ البلاد: ملک کا دارالحکومت۔ قاعِدَة جَوِّيَة: فضائی مرکز، قاعدة حربية: فوجی نقل و حرکت کا مرکز۔ قاعدة المُلْك: دارالحکومت۔ مِساحَةُ القاعدة: تلا، پیندا، اصل سطح Basal surface۔ مُقْعَد: رو کا ہوا، گرفتار کیا ہوا، لنگڑا، لنگڑا لولا۔ معذور، اپاہج۔ مُتَقَاعِد: ریٹائرڈ، پنشنر۔

قعر ۱۔ قَعَرَ ـ قَعْرًا ہ کو پچھاڑنا تَقَعَّرَ: بچھڑنا، منقلب ہونا۔ اِنْقَعَرَ: مرنا۔

۲۔ قَعَرَ ـ قَعْرًا البئر: کنویں کی گہرائی میں اترنا، کو گہرا کرنا۔ ـــ الاناءَ: برتن کا سب کچھ پی لینا۔ ـــ الشجرة: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔ قَعُرَ ـ قَعَارَةً الماءُ: پانی بہت گہرائی میں ہونا۔ قَعَّرَ البئر: کنویں کو گہرا کرنا۔ ـــ الشیءَ: کو گہرا بنانا۔ الشیءُ: گہرا ہونا۔ ـــ الرجلُ: چیخنا۔ ـــ فی کلامه: حلق سے بولنا۔ اَقْعَرَ البئر: کنویں کو گہرا کرنا۔ النجمُ: ستارے کا برتن وغیرہ کے پیندے میں ظاہر ہونا۔ تَقَعَّرَ: گہرا ہونا۔ ـــ فی کلامه: حلق سے بولنا۔ اِنْقَعَرَ: اکھڑنا۔ القَعْرُ (مص) ج قُعُور: بڑا پیالہ، پست زمین۔ ـــ من کل شیئ: گہرائی۔ ـــ قَعْرُ الفَم: منہ کا اندرونی حصہ، کہا جاتا ہے رَجُلٌ بَعِیْدُ القَعْرِ: فلاں آدمی بہت گہرا ہے، نمونہ کے لئے کہا جاتا ہے۔ مَا فِی هذا القعرِ مِثْلُهُ: یعنی اس شہر میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے: جَلَسَ فُلَانٌ فِی قَعْرِ بَیْتِهٖ: کنایہ ہے ہمیشہ گھر میں رہنے سے القُعْرَة: پست زمین، ـــ و القَعْرة: جو چیز پیالہ کے گڑھے کو چھپالے۔ اِنَاءٌ قَعْرَانٌ: زیادہ گہرا برتن قَدَحٌ قَعْرَانٌ: گہرا برتن قَصْعَةٌ قَعْرَی: پیالہ جس میں کوئی چیز ہو جو اس کے گڑھے کو چھپالے۔ القَعُوْرُ و القَعِیْرُ: زیادہ گہرائی والا۔ المِقْعَار: حلق کی گہرائی سے بولنے والا۔ اِناءٌ مِقْعار: بہت گہرا برتن، قَعْبٌ مِقْعارٌ: چوڑا اور گہرا پیالہ۔ القَیْعَر و القَیْعار: حلق سے بولنے والا۔ المُقَعَّرُ: گہرا۔ ـــ من الخطوط: دھنسی ہوئی لکیریں۔

۳۔ قَعَرَ ـ قَعْرًا ت الشاة: بکری کا نا تمام بچہ گرانا۔ قَعَّرَتِ الشاةُ: بکری کا نا تمام بچہ گرانا۔

۴۔ القَعْرُ ج قُعُور: عقل کامل۔

○ قَعُرَ ـ قَعَارَةً: گہرا ہونا، کھود کر یا کھوکھلا کر کے بنایا جانا۔ قَعَّرَ ہ کو گہرا کرنا یا زیادہ گہرا کرنا، کو کھود کر یا کھوکھلا کر کے بنانا، کو کھوکھلا کرنا، کھودنا۔ ـــ چیخنا، چلانا۔ قَعَّرَ فی کلامه: حلقی آواز سے بولنا۔ اَقْعَرَ ہ (کنواں) گہرا کرنا، زیادہ گہرا کرنا۔ تَقَعَّرَ: گہرا ہونا، نیچا ہونا، دبا ہوا ہونا، بیٹھا ہوا ہونا، کھدا ہوا ہونا، کھوکھلا کیا ہوا ہونا، پیندے تک اترا ہوا ہونا، مجوف ہونا مُقَعَّر ہونا قَعْر ج قُعُور: تہ، پیندا، گہرائی، جہاز کے پیندے کا شہتیر، گڑھا، جوف، خلا، نشیب۔ من القعر صاعدًا: تہ سے اوپر۔ قَعْرَة: گڑھا، جوف، خلا، نشیب قَعُور: گہرا، قَعِیر: گہرا۔ مُقَعَّر: دبایا ہوا، نیچا، گہرا، کھوکھلا، مجوف۔ مُقَعَّر: مڑا ہوا، جھکا ہوا، غیر واضح (زبان)۔

قعس ۱۔ قَعَسَ ـ قَعْسًا: سینہ ابھار کر اور پیٹھ دھنسا کر چلنا۔ ـــ الشیءَ: کو موڑنا۔ قَعَسَ ـ قَعْسًا: بتکلف سینہ ابھار کر پیٹھ دھنسا کر چلنا۔ قَعِسَ ـ قَعَسًا: سینہ نکلا اور پیٹھ دھنسا ہوا ہونا صفت قَعِسٌ ج قُعْسَانٌ و اَقْعَسُ مونث قَعْسَاءُ ج قُعْسٌ۔ تَقَاعَسَ: سینہ نکالنا۔ ـــ فلانٌ: سینہ نکالنے والے کے مشابہ ہونا۔ بَعِیْرٌ اَقْعَسُ: سر پیٹھ اور گردن جھکا ہوا اونٹ، فَرَسٌ اَقْعَسُ: پست پیٹھ کا گھوڑا۔

۲۔ اَقْعَسَ: مالدار ہونا۔

۳۔ تَقَاعَسَ العِزُّ: عزت کا پائیدار ہونا۔ الاَقْعَسُ مونث قَعْسَاءُ ج قُعْسٌ: مضبوط عِزٌّ اَقْعَسُ: عزت ثابت، عِزَّةٌ قَعْسَاءُ: عزت پائیدار۔ لَیْلٌ اَقْعَسُ: لمبی رات۔ المُقْعَنْسِسُ ج مَقَاعِسُ و مَقَاعِیْسُ: سخت، ممتنع۔

۴۔ تَقَاعَسَ عن الامر: سے پیچھے ہٹنا۔ ـــ الفرسُ وغیرُهُ: ہانکنے والے کے تابع نہ ہونا۔ اِقْعَنْسَسَ الرجلُ: پیچھے ہٹنا، پیچھے پلٹنا۔

۵۔ القُعَاسُ: ایک بیماری ہے جس سے بکریاں بہت مرتی ہیں۔

۶۔ تَقَعْوَسَ الشیخُ: بہت بوڑھا ہونا۔ ـــ البیتُ: گرنا۔ ـــ الرجلُ عن الامر: سے پیچھے ہٹنا اور آگے نہ بڑھنا۔ القَعْوَسُ: بہت بوڑھا مضبوط پیٹھ والی چیز۔

۷۔ قَعْسَرَ قَعْسَرَةً ہ کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ـــ الشیءُ: سخت ہونا۔ ـــ علیه پر قوی ہونا۔ القَعْسَرِی (ح): مضبوط بھاری بھرکم اونٹ، چکی کا ہتھا۔ عِزٌّ قَعْسَرِیٌّ: قدیم عزت، اصلی عزت۔

○ قَعِسَ ـ قَعَسًا: ابھرے ہوئے سینہ اور دھنسی ہوئی پشت والا ہونا، کبوتر سینہ ہونا۔ تَقَاعَسَ عن: سے علیحدہ رہنا، دور رہنا، باز رہنا، کو کرنے سے ہچکچانا، پر آمادہ نہ ہونا، کو کرنے میں ناکام ہونا، غفلت کرنا، میں دلچسپی نہ لینا۔ اِقْعَنْسَسَ: ابھرے ہوئے سینہ اور دھنسی ہوئی پشت والا۔ عِزٌّ اَقْعَس: پائیدار اقتدار۔ تقاعُس: بے پروائی، غفلت۔ مُتَقَاعِس: بے پرواہ، غافل، ست، ہچکچانے والا، متذبذب، متامل، پس و پیش کرنے والا۔ غیر آمادہ۔ نارضامند، بیدل، بے ہمت، بے وزن۔

○ قَعْقَعَ قَعْقَعَةً: کھنکھنانا۔ کھڑکھڑانا۔ جھن جھن کرنا۔ جھنک یا جھنکار پیدا کرنا قُعْقُع و قَعْقَع: بکواسی، بکی، یاوہ گو۔ قَعْقَعَة: کھنکھٹ، کھڑکھڑاہٹ، جھن جھن، جھنک، جھنکار، کھنکھناہٹ، ٹھن ٹھن، شور، غل، شور و غوغا، غل غپاڑہ ج قَعَاقِع: اونچی آواز نکالنے والے الفاظ۔

قعش ۱۔ قَعَشَ ـ قَعْشًا الشیءَ: کو جمع کرنا۔ ـــ الحائطَ: دیوار گرانا۔ اِنْقَعَشَ: گرنا۔ ـــ القوم: جانا۔ القَعْشُ (مص) ج قُعُوش: ہودج کی مانند عورتوں کی سواری۔

۲۔ قَعْوَشَ ہ کو پچھاڑنا۔ ـــ البناءَ: اکھیڑنا۔ تَقَعْوَشَ البیتُ: گرنا۔ ـــ الجذعُ: جنڈ کا جھکنا۔

قعص ۱۔ قَعَصَ ـ قَعْصًا و اَقْعَصَ ہ کو جگہ پر قتل کرنا، جگہ پر مار دینا۔ قُعِصَ ـ قَعَصَات الشاة کو قعاص

کی بیماری لگنا۔ اِنْقَعَصَ: جگہ پر ہی مرنا۔ القُعَاصُ (مص) فی الفور موت، منہدم شدہ مکان۔ القُعَاصُ (طب): ایک بیماری جس سے بکریاں جلد مرجاتی ہیں۔ بیماری جو سینہ میں ہوتی ہے اور گردن توڑ دیتی ہے۔ القَعّاصُ و المِقْعَصُ و المِقْعَاصُ: شیر جو شکار کو فوراً مار ڈالے۔

۲۔ قَعِصَ ــ قَعَصَاتُ الشاۃ: قعوص والی ہونا۔ القَعُوصُ: دودھ دوہنے والے کو مارنے اور دودھ نہ دینے والی بکری۔

۳۔ اِنْقَعَصَ الشیئُ: مڑنا۔

قعض: قَعَضَ ـَ قَعْضًا الغُصْنَ: شاخ کو موڑنا۔ اِنْقَعَضَ: جھکنا۔ القَعْضُ (مص) جھکا ہوا، کہا جاتا ہے۔ عُودٌ قَعْضٌ جھکی ہوئی لکڑی یہ وصف بالمصدر ہے۔

قعط ۱۔ قَعَطَ ـ قَعْطًا: بہت چیخنا ـ فلانًا: کو دھکا دینا، پچھاڑنا ـ علیہ: پر غضب ناک ہونا۔ قَعِطَ ـَ قَعَطًا: ذلیل ہونا۔ قَعَطَ فی القول: بےہودہ بکنا۔ اَقْعَطَ: سخت چیخنا ـ ہٗ: کی اہانت کرنا، کو ذلیل کرنا۔ ـ فی القول: بےہودہ بکنا۔

۲۔ قَعَطَ ـَ قَعْطًا الشیئَ: کو ضبط کرنا ــ العمامۃَ: سر پر پگڑی باندھنا۔ و قَعَطَ الدابۃَ: چوپایہ کو تیز ہانکنا صفت۔ قَعّاطٌ ـ علی غریمہ: قرضدار پر سختی کرنا۔ اَقْعَطَ فی اثرہ: کے پیچھے دوڑنا۔ اِقْتَعَطَ العمامۃَ: سر پر پگڑی باندھنا۔ القَاعِطُ (فا) قرض دار پر سختی کرنے والا۔ المِقْعَطُ و المِقْعَطَۃُ: عمامہ، پگڑی جو سر پر باندھی جائے۔

۳۔ قَعِطَ ـ قَعَطًا: بزدل ہونا۔

۴۔ قَعَطَ ـُ قَعْطًا عن وجھہ: چہرہ کھولنا۔ اَقْعَطَ القومُ عنہ: سے علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔ تَقَعَّطَ و اِنْقَعَطَ السحابُ: بادل کا کھل جانا۔

۵۔ قَعَطَ ـَ قَعْطًا: خشک ہونا۔ القُعَاطُ و المُقْعَطُ: سخت قسم کا گھمنڈی۔

۶۔ القَعْطُ: بہت بکریاں۔

۷۔ قَعْطَبَ الشیئَ: کو کاٹنا۔

۸۔ قَعْطَرَہٗ: کو پچھاڑنا، مضبوط باندھنا ــ الاناءَ: برتن بھرنا۔ اِقْعَطَرَّ: کا سانس منقطع ہونا۔

۹۔ قَعْطَلَہٗ: کو پچھاڑنا ــ علی غریمہ: قرضدار سے قرض کے مطالبہ میں سختی کرنا۔ القَعْطَلُ: تیز، جلد باز۔

قعف ۱۔ قَعَفَ ـَ قَعْفًا التراب: تیز دوڑنے کی وجہ سے غبار اڑانا ــ النخلۃَ: کھجور کے درخت کو جڑ سے اکھاڑنا ــ ما فی الاناء: برتن کا سب کچھ پی لینا۔ ــ المطرُ الحجارۃَ: بارش کا پتھر کو بہالے جانا۔ قَعِفَ ـَ قَعَفًا الحائطُ: دیوار کا گرنا۔ تَقَعَّفَ و اِنْقَعَفَ الحائطُ: دیوار کا جڑ سے منہدم ہونا ــ الجُرُفُ: وادی کے کناروں کا گرنا ــ الشیئُ: اپنی جگہ سے زائل ہونا۔ اِقْتَعَفَ الحائطُ و الجُرُفُ و الشیئُ بمعنی تَقَعَّفَ۔ الشیئَ: کو حرص سے لے لینا۔ القاعِفُ (فا): سخت بارش۔ سَیْلٌ قُعَافٌ: سب کچھ بہالے جانے والا اسیلاب۔

۲۔ القَعَفُ: چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو سلسلہ وار ہوں۔ ایک دوسرے پر ہوں۔

۳۔ قَعْفَزَ الرجلُ: اکڑوں بیٹھنے والے کی طرح بیٹھنا ــ فی المشی: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا ــ لہٗ الکلامَ: کسی کو سخت کلامی سے اپنے آپ سے ہٹانا۔ تَقَعْفَزَ الرجلُ: بیٹھنا۔ اِقْعَنْفَزَ: اس شخص کی بیٹھک بیٹھنا جو کودنے کو تیار ہو۔

قعل ۱۔ اَقْعَلَ و اِقْعَالَ اِقْعِئْلالًا النَّوْرُ: شگوفہ نکلنا۔ اِقْتَعَلَ القُعَالَ: شگوفہ کو دور کرنا۔ القُعَالَۃُ: القُعَالُ کا مونث شگوفہ جو جھڑ جائے، اونٹ کا گرا ہوا اون۔

۲۔ اِقْعَالَّ الراکبُ: سوار کا سیدھا ہونا۔

قعم ۱۔ قَعَمَ ـَ قَعْمًا السِنَّوْرُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ اَقْعَمَ ت الشمسُ: آفتاب کا بلند ہونا۔

۲۔ قُعِمَ ـ قَعْمًا الرجلُ: بیمار ہو کر فوراً مرنا۔ اَقْعَمَ ت الحیۃُ فلانًا: کو سانپ کا ڈسنا اور فوراً مار ڈالنا۔ اُقْعِمَ الرجلُ: بیمار ہو کر فوراً مرنا۔

۳۔ القَعَمُ: ناک میں جھکاؤ۔ الاَقْعَمُ: ناک میں جھکاؤ والا۔ قُعْمَۃُ المالِ: عمدہ مال۔

۳۔ القُعْمُوطُ و القُعْمُوطَۃُ ج قَعَامِیطُ: چھوٹے بچے کے گرد لپیٹنے کا کپڑا۔

قعن: قَعِنَ ـَ قَعَنًا الانفُ: ناک کا چپٹا ہونا یا بانسہ بلند ہونا صفت اَقْعَنُ مونث قَعْنَاءُ ج قُعْنٌ اور تصغیر قُعَیْنٌ۔ القَعْنُ: آٹا گوندنے کا بڑا برتن۔

قعی ۱۔ قَعِیَ ـَ یَقْعَی قَعًا: کے بانسہ کا بلند ہونا پھر جھکنا صفت۔ اَقْعَی مونث قَعْوَاءُ۔ اَقْعَی انفُہٗ: کی ناک کا بلند بانسہ والی ہونا۔ الکلبُ: کتے کا چوتڑ پر بیٹھنا ـ فرسہ: گھوڑے کو پچھلے پاؤں لوٹانا۔

۲۔ القَعْوُ ج قُعِیٌّ: لوہے کا دھرا جس پر چرخی گھومتی ہے۔ القَعْوَانِ ج قُعِیٌّ: دو لکڑیاں یا لوہے کے ٹکڑے جن میں دھرا ہو یا ان کے درمیان چرخی گھومتی ہو۔ القَعْوَۃُ ج قَعًی (ع ا) ران کی جڑ۔

قف ۱۔ قَفَّ ـِ قُفُوفًا العشبُ او الشجرُ: گھاس یا درخت کا خشک ہونا ــ ت الارضُ: خشک پیداوار والی ہونا ــ الشیئُ: سمٹنا، سکڑنا ــ الثوبُ: کپڑے کا دھونے کے بعد خشک ہونا۔ اَقَفَّ: خشک چراگاہ پانا۔ اِسْتَقَفَّ: سمٹنا، سکڑنا۔ القُفُّ ج قِفَافٌ و اَقْفَافٌ: پست قد، چٹانی زمین سلسلہ وار کہ جس کے درمیان نرم زمین نہ ہو۔ القَفُّ: خشک سبزی۔ القَفَّۃُ ج قِفَافٌ: خشک درخت خشک کدو۔ کدو کی شکل کی زنبیل ــ و القَفَّۃُ من الرجال: پست قد، کمزور۔ القِفَّۃُ: اسم نوع۔ القَفِیفُ: خشک سبزی۔

۲۔ قَفَّ ـِ قُفُوفًا الشعرُ: شدت خوف سے رونگٹے کھڑا ہونا۔ القَفَّۃُ و القِفَّۃُ و القُفَّۃُ: بخار کی وجہ سے کپکپی۔

۳۔ قَفَّ ـُ قُفُوفًا الصیرفیُّ: صراف کا دو انگلیوں کے درمیان دراہم کو چرانا۔ القَفَّافُ: انگلیوں کے درمیان دراہم چرانے والا اصراف

۴۔ اَقَفَّ ت الدجاجۃُ: مرغی کا انڈے دینے سے رکنا۔ ــ ت العینُ: کے آنسو خشک ہو جانا۔

۵۔ القُفُّ ج قِفَافٌ و اَقْفَافٌ: چیز کا بیرونی حصہ، کلہاڑی کا سوراخ، کلہاڑی کے مانند ایک چیز، بلند زمین، پہاڑ کی مانند سیاہ بادل ـ من الناس مختلف قسم کے لوگ۔ قُفُّ البئرِ: کنویں کے ارد گرد کا چبوترہ۔ القُفَّۃُ ج قُفَفٌ: کھجور کی پتیوں کی ٹوکری، کلہاڑی کی مانند ایک چیز، بلند زمین۔ القِفَّۃُ: نوزائیدہ بچے کا پہلا پاخانہ۔ القَفَّانُ: امانت دار۔ کہا جاتا ہے اَتَیْتُہٗ عَلٰی قَفَّانِ ذٰلِکَ: میں اس کے پاس اس کے پیچھے پیچھے آیا، اور کہا جاتا ہے۔ ھٰذَا قَفَّانُہٗ: یہ اس کا وقت ہے۔

۶۔ قَفْقَفَ قَفْقَفَۃً و تَقَفْقَفَ: سردی وغیرہ سے کانپنا۔ ــ النبتُ: فصل کا خشک ہونا۔ قَفْقَفَا الطائرِ: پرندہ کے دونوں بازو ــ البعیرِ: اونٹ کے دنوں جبڑے۔

قفی: قَفِیَ: قَفًا المکانُ: جگہ کا بارش یا مٹی پڑ جانے کی وجہ سے تباہ شدہ پودوں والی ہونا۔ اِقْتَفَا الخَرْزَ: توشہ دان وغیرہ کی سلائی دوبارہ کرنا

قفت: قَفْتَلَ الشیئَ: کو جلدی سے لے جانا۔

قفح: قَفَحَ ـَ قَفْحًا ہٗ: کو ناپسند کرنا اور چھوڑ دینا ــ الشیئَ: کو دوا کی طرح پھانکنا۔ عن الشیئِ: سے باز رہنا۔ القَفِیحَۃُ: کھمبی جس پر بکری کا دودھ دوہا جائے۔

قفخ: قَفَخَ ـَ قَفْخًا و قِفَاخًا ہٗ: کو مارنا، (کھوکھلی یا خشک چیز یا سر پر ہی مارنے کے لئے مستعمل ہے۔) القَفِیخَۃُ: ایک قسم کا کھانا۔

قفد ۱۔ قَفَدَ ـ قَفْدًا الرجلُ: کام کرنا، کہا جاتا ہے۔ مَا زِلْتُ اَقْفِدُ لَکَ مُذِ الیومِ: میں آج کے دن

تمہارے لیے کام کرتا رہا۔

۲۔ قَفَدَ ۔ قَفْدًا ہُ کی گدی پر تھپڑ مارنا۔

۳۔ قَفَدَ ۔ قَفَدًا: بغیر شملہ لٹکائے ہوئے پگڑی باندھنا، کہا جاتا ہے اِعْتَمَّ القَفَدَاءَ او القَفَدَ اس نے بغیر شملہ لٹکائے ہوئے پگڑی باندھی۔

۴۔ قَفِدَ ۔ قَفَدًا: ڈھیلی یا موٹی گردن والا ہونا۔ الاَقْفَدُ: مونث قَفْدَاءُ ڈھیلی یا موٹی گردن والا، پنجوں کے بل چلنے والا، موٹے ہاتھ پاؤں اور چھوٹی انگلیوں والا۔

۵۔ القَفَدَانُ و القَفَدَانَۃُ سرمہ دان کا غلاف، چمڑے کی تھیلی جس میں خوشبو وغیرہ رکھتے ہیں (فارسیہ)

○ قَفَّۃ جمع قِفَف: بڑا ٹوکرا، گول کشتی، قَفّۃ و قُفّۃ: بخار سے طاری کپکپی، لرزہ، تپ لرزہ، جاڑے کا بخار۔

قفر ۱۔ قَفَرَ ۔ قَفْرًا و تَقَفَّرَ و اِقْتَفَرَ الاثرَ: کے پیچھے جانا، کو تلاش کرنا۔

۲۔ قَفِرَ ۔ قَفَرًا مالُہٗ کا مال کم ہونا صفت قَفِرُ المَال ۔ الطعام: کھانا بغیر سالن کے ہونا۔ اَقْفَرَ الرجُلُ: بے کھانا ہونا، بے سالن ہونا۔ بے آب وگیا جنگل کی طرف جانا۔ ۔ المکانُ: گھاس پانی اور آدمی سے خالی ہونا۔ ۔ الرجُلُ: بھوکا ہونا، بے سالن کے روٹی کھانا۔ ۔ الرجُلُ من اهلہ: سے اکیلا ہونا۔ ۔ رأسُہٗ من الشَعْرِ: سر کا بالوں سے خالی ہونا۔ ۔ البلدَ: شہر کو خالی پانا۔ ۔ العظمَ: ہڈی چوڑ کے صاف کر دینا۔ اِقْتَفَرَ العظمَ: ہڈی کو چوسنا۔ القَفْرُ ج قِفَارٌ و قُفُورٌ: گھاس پانی اور آدمی سے خالی زمین کہا جاتا ہے۔ اَرْضٌ قَفْرٌ و اَرْضٌ قِفَارٌ: بے آب وگیاہ چٹیل میدان، اور کہا جاتا ہے۔ نَزَلْنَا بِبَنِی فلانٍ فبِتنا القَفْرَ: یعنی ہم فلاں خاندان کے پاس اترے اور انہوں نے ہماری مہمانداری نہیں کی، وبَاتَ فلانٌ القَفْرَ والوَحْشَ: یعنی فلاں کی مہمانداری نہیں کی گئی۔ القَفُوْرُ: بیل جو کھیتی کرنے کیلئے ماں سے جدا کر لیا جائے۔ خُبْزٌ قَفْرٌ و قفارٌ: بغیر سالن کے روٹی کہا جاتا ہے۔ اَکَلَ خُبْزَہٗ قَفَارًا: اس نے بغیر سالن کے روٹی کھائی۔ القَفْرُ (مص) بال۔ القَفِرُ: کم بال والا۔ (ح): بھیڑیا۔ القَفْرَۃ ج قَفَرَاتٌ: گھاس، پانی، آدمی سے خالی زمین۔ القَفِیْرُ ج قُفْرَانٌ: بغیر سالن کے روٹی، کہا جاتا ہے۔ اَرْضٌ مِقْفَارٌ: خالی زمین۔

۳۔ قَفَرَ التراب و نحوَہٗ: مٹی وغیرہ جمع کرنا۔ القَافُوْرُ والقَفُوْرُ والقعفورَۃُ: کھجور کے شگوفہ کا غلاف۔ القَفِیْرُ ج قُفْرَانٌ: ٹوکری، شہد کا چھتہ (عامیۃ)۔

○ اَقْفَرَ: خالی ہونا یا ہو جانا، بے رنگ، بے کیف، بے لطف ہونا، یا ہو جانا، اجاڑ، سنسان، غیر آباد، ناقابل، سکونت ہونا یا ہو جانا، متروک ہونا یا ہو جانا، آبادی کا گھٹنا یا گھٹ جانا، برباد ہونا یا ہو جانا، ویران ہو جانا۔ ۔ من: سے محروم ہونا، خالی ہونا، بدنصیب ہونا۔ ۔ ہ کو برباد کرنا، کی آبادی کم کرنا، تباہ و برباد کرنا، ویران کرنا، بے آباد کرنا، اجاڑنا، مکان یا شہر کو ترک کرنا، کو ویرانی کی حالت میں چھوڑنا۔ ۔ ہ (ہڈی) کا گوشت اتارنا۔ اقتفرہ: کا کھوج لگانا، کے قدموں کے نشان کا پیچھا کرنا۔ قَفَرَ اثرہ بمعنی بالا۔ قفر جمع قِفَار: ریگستان، بیابان، بنجر زمین، غیر آباد، اجاڑ، سنسان علاقہ خالی، بے کیف، بیکس، تن تنہا، ترک کیا ہوا، بے جان، مردم، اجاڑ، تباہ شدہ، بنجر۔ ۔ من: سے محروم۔ ارضٌ قفرٌ او قِفار: بیابان، اجاڑ زمین۔ خبز قَفْر: خشک روٹی، سادہ روٹی۔ قفرۃ جمع قفرات: ریگستان، بیابان، اجاڑ، غیر آباد علاقہ۔ بادیۃ قَفْرَاء: بے آب وگیاہ بیابان، ریگستان۔ مُقْفِر: خالی، بے جان، غیر آباد، برباد شدہ، اجاڑ، سنسان، بے رنگ، بے کیف، بیکس، تن تنہا۔ ۔ من: سے محروم۔

قفز ۱۔ قفز ۔ قفزًا و قفزانًا و قِفازًا و قفوزًا: مرنا۔

۲۔ قَفَزَ ۔ قَفْزًا و قَفَزَانًا و قِفَازًا و قُفُوْزًا الغزالُ: ہرن کا اچھلنا، کودنا۔ قَفَّزَہٗ: کو کدانا۔ تَقَافَزَ القومُ: باہم کودنا۔ القَافِزَۃُ ج قَوَافِزُ، القافز کا مونث، تیز رفتار گھوڑا۔ (ح) مینڈک۔ القَفَّزَی: اچھل کود کہا جاتا ہے۔ عَدَتِ الخَیْلُ القَفَّزَی: یعنی گھوڑے کود کود کر دوڑے۔ القَفَّازُ: بہت کودنے والا۔ القُفَیْزَی: بچوں کا ایک کھیل کہ لکڑی گاڑ کر اس پر کودتے ہیں۔

۳۔ قَفِزَ ۔ قَفَزًا الفرسُ: گھوڑے کی اگلی ٹانگوں میں گھٹنے تک سفیدی ہونا۔ تَقَفَّزَ بالحناء: ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی سے نقش و نگار کرنا۔ القُفَّازُ ج قَفَافِیْزُ: عورتوں کے ہاتھ پاؤں کا زیور، دستانہ، عوام کفوف کہتے ہیں۔ الاَقْفَزُ و المُقَفَّزُ من الخیل: اگلی ٹانگوں میں گھٹنوں تک سفید گھوڑا۔

۴۔ القَفِیْزُ ج اَقْفِزَۃ و قُفْزَانٌ: ایک پیمانہ کا نام۔ ۔ من الارض: ایک سو چوالیس گز۔

قفس: ۱۔ قَفَسَ ۔ قَفْسًا و قُفُوْسًا الشیئَ: کو ناجائز طور پر زبردستی پکڑنا۔ فلانًا: کے بال پکڑ کر نیچے کھینچنا۔ تَقَفَّسَ الظبیُ: ہرن کا چھلانگ مارنا۔ تقافسَ الرجلان بشعور هما: کود کر ایک دوسرے کے بال پکڑنا۔ القَافِسَۃُ، القَافِسُ کا مونث کمینے لوگ۔

۲۔ قَفَسَ ۔ قَفْسًا و قُفُوْسًا: مرنا۔

۳۔ قَفِسَ ۔ قَفَسًا: تشنج جیسی جوڑوں کی بیماری والا ہونا۔ قَفَسًا الظبیُ: ہرن کی اگلی پچھلی ٹانگوں کو باندھ دینا۔

۴۔ قَفِسَ ۔ قَفَسًا: کے بانسہ کے کنارے کا بڑا ہونا۔

۵۔ القَافِسَۃُ کمینے لوگ۔ قَفَاسِ مبنی علی الکسر: کمینی لونڈی۔ الاَقْفَسُ: لونڈی کا بچہ، ہر وہ چیز جو لمبی اور جھکی ہوئی ہو۔ عَبْدٌ اَقْفَسُ: کمینہ غلام۔ القَفْسَاءُ (الاقفس کا مونث) کمینی لونڈی، معدہ یا پیٹ۔

قفش ۱۔ قَفَشَ ۔ قَفْشًا الطعام: کو بہت حرص سے کھانا۔ الناقۃَ: اونٹنی کو تیز دوہنا۔ ۔ ما فی الضرع: دودھ کو جلد ختم کر دینا۔ القفش (مص) نشاط۔

۲۔ قَفَشَ ۔ قَفْشًا ہٗ بالعصا کو لاٹھی سے مارنا۔

۳۔ قَفَشَ ۔ قَفْشًا و قُفُوْشًا: مرنا۔

۴۔ قَفَشَ ۔ قَفْشًا الشیئَ کو لینا اور جمع کرنا۔ اِنْقَفَشَ واِقْتَفَشَ و اِقْفَنْشَشَ العنکبوتُ ونحوُہٗ: مکڑی وغیرہ کا سمٹ کر بیٹھنا۔

۵۔ القَفْشُ: چھوٹا چرمی موزہ (فارسیہ) القَفَشُ: چور۔ (جمع)

○ قَفَزَ ۔ قَفْزًا و قَفَزَانًا اچھلنا، کودنا، چھلانگ لگانا۔ تَقَفَّزَ: دستانے پہننا۔ قَفْز: چھلانگ لگانا، کودنا، پھلانگنا۔ القفز علی الحبل: رسی پھلانگنا۔ القفز بالزانۃ: بانس پر ہاتھ رکھ کر کودنا۔ قفز طویل: چوڑی یا طویل چھلانگ۔ قَفْز عالٍ: بلند جست، اونچی چھلانگ۔ قَفْزۃ جمع قَفَزَات: چھلانگ، کود، پھلانگ، قُفَاز جمع قُفَّازات و قَفَافِیز: دستانہ، دستانوں کا جوڑا۔ قَفِیز جمع اَقْفِزَۃ: ایک خشک اشیاء ناپنے کا پیمانہ۔ مَقْفِز: جھپٹ، جست، تختہ و زقند۔

○ قَفَشَ ۔ قَفْشًا ہ کو دریافت کرنا، کا انکشاف کرنا قَفْش: بچوں کی سی باتیں، بک بک۔ قَفَشَات: ہنسی مذاق۔

قفص ۱۔ قَفَصَ ۔ قَفْصًا الظبیَ: ہرن کی ٹانگیں باندھنا۔ الشیئَ: کو قریب قریب رکھنا۔ ۔ الیعسوبَ: شہد کی مکھیوں کے بادشاہ کو دھاگے سے باندھ کر چھتے میں رکھنا۔ قَفِصَ ۔ قَفَصًا: سکڑنا۔ سردی سے سن ہونا صفت قَفِصٌ۔ قَفَّصَ الظبیَ: ہرن کی ٹانگیں باندھنا۔ اَقْفَصَ الرجُلُ: پنجرے والا ہونا۔ تقفّصَ: اکٹھا ہونا۔ تَقَافَصَ: مختلط ہونا، اکٹھا ہونا۔ القَافِصَۃُ ج قَوَافِص۔ القافص کا مونث۔ القُفْصُ و القَفَصُ: مختلط۔ القَفَصُ: مختلط ۔ ج اَقْفَاصٌ: پنجرا، غلہ وغیرہ رکھنے کا برتن۔ القُفَاصُ: ایک بیماری جو جانوروں کو لاحق ہوتی ہے جس پر ان کی ٹانگیں خشک ہو جاتی ہیں۔ ثَوْبٌ مُقَفَّصٌ (مفع) پنجرے کی طرح منقش کپڑا۔

۲۔ قَفَصَ ـِ قَفْصًا الرجُلَ کو تکلیف دینا۔
۳۔ قَفِصَ ـَ قَفَصًا ہلکا پھلکا ہونا۔ ـــ الفرسُ: پوری دوڑ سے نہ دوڑنا صفت قَفِصٌ۔ القُفَاصُ (ح): پہاڑی بکرا۔
۴۔ القافِصَة کمینے لوگ۔

قفع ا۔ قَفَعَ ـَ قَفْعًا ہٗ بالمقفعة: کو چھڑی سے مارنا۔ ـــ ہٗ عن کذا: کو سے منع کرنا۔ اِنْقَفَعَ عنه: سے باز رہنا۔ القَفَّاعُ: اسم مبالغہ۔ المِقْفَعَةُ: ہاتھ یا انگلی پر مارنے کی چھڑی۔
۲۔ قَفِعَ ـَ قَفَعًا ت الاذنُ: کان کے اطراف کا سکڑنا۔ صفت قَفْعَاءُ اور ایسے کان والے کو اقفع کہتے ہیں۔ ـــ ت الرجلُ: کی انگلیوں کا قدم کی جانب مڑا ہونا۔ ـــ ت الشاةُ: چھوٹی دم والی ہونا۔ قَفَعَ الشیئَ کو برتن میں رکھنا۔ البردُ اصابعه: سردی کا انگلیوں کو خشک اور سکیڑ دینا۔ تَقَفَّعَ ت الاذنُ والرجلُ والشاةُ: بمعنی قَفِعَتْ۔ ـــ الشیئُ: سکڑنا سمٹنا۔ اِنْقَفَعَ النباتُ: نباتات کا خشک اور سخت ہونا۔ القَفْعُ واحد قَفْعَةٌ (اع): ایک جنگی آلہ جس کو حصار کے موقع پر استعمال کرتے تھے اور اس کے اندر داخل ہو کر قلعہ کی دیوار تک پہنچ کر اس میں سوراخ کرتے تھے۔ القَفْعُ (مص) تنگی، تھکن۔ القَفْعَةُ ج قِفْعَاءُ و قَفَعَاتٌ: نیچے سے کشادہ اور تنگ منہ کی ٹوکری۔ القُفَاعُ و القَفَاعُ: ایک بیماری جو بکریوں کو لاحق ہوتی ہے جس سے ان کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ الاَقْفَعُ مونث قَفْعَاءُ ج قُفْعٌ: سکڑے ہوئے کان والا، مڑی ہوئی انگلیوں والا، ہمیشہ سر جھکائے رکھنے والا، چھوٹی دم والا۔ القَفْعَاء (ن): انگوٹھی کے مانند حلقے والی ایک بوٹی، جس کے دونوں کنارے ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ شاةٌ قَفْعَاء: چھوٹی دم والی بکری۔ المُقَفَّعُ: ہمیشہ سر جھکائے رکھنے والا۔ رَجُلٌ مُقَفَّعُ الیدَیْنِ: سکڑے ہوئے ہاتھوں والا اور عوام، مَقْفُوعٌ کہتے ہیں۔
۳۔ القَفْعَةُ: مڈی دل۔ القُفَّاعَةُ: ایک قسم کا پھندا جو کھجور کی شاخ سے بناتے ہیں اور اس سے پرندے کا شکار کرتے ہیں۔

۞ قَفَصٌ جمع اَقْفَاص: پنجرہ، قفس، مرغیوں کا ٹوکرا، ٹاپا، ڈربہ، ٹوکری (کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی) چھاتی، سینہ، ملزم کا کٹہرا۔ قفص الاتهام ملزم کا کٹہرا۔ تقفيصة مرغیوں، بطخوں کا ڈربہ۔
۞ قُفْطان جمع قَفَاطِین ترکی چوغہ۔
۞ قفقس: کوہ قاف۔

۞ قَفَعَ ـَ قَفَعًا: سکڑنا، چرمر ہو جانا، جھریاں یا شکن ڈالا ہوا ہو جانا۔ قَفَعَ ہ: سردی کا انگلیوں کو چرمر کر دینا۔ تَقَفَّعَ بمعنی قَفِعَ قَفَعٌ قَفْعٌ سپر بند گاڑی یا آڑ (محاصرے کی کارروائی کے دوران مستعمل)۔

قفل ا۔ قَفَلَ ـُ قَفْلًا و قُفُوْلًا سفر سے لوٹنا۔ ـ الامیرُ الجندَ: امیر کا فوج کو لوٹانا۔ اَقْفَلَ الجیشُ: فوج کا لوٹنا، واپس آنا ـــ القومَ: کو پیچھے سے دیکھتے رہنا۔ اقفلهم عن مبعثهم: کو لوٹانا۔ اِنْقَفَلَ الغزاةُ: غازیوں کا واپس ہونا۔ ـــ الرجلُ جس کام میں ہوا سے کر گزرنا۔ القَافِلُ ج قَافِلَةٌ و قُفَّالٌ لوٹنے والا۔ القَافِلَةُ ج قَوَافِلُ القافل کا مونث، سفر سے لوٹنے والے رفقاء یا سفر شروع کرنے والے، ان پر بھی تفاولاً قافلہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ القُفُلُ: خچروں کا گلہ (عامیہ)۔ القَفْلُ (مص) اسم جمع بمعنی قافلہ۔ القَفْلَةُ: گدی، سر کا پچھلا حصہ۔
۲۔ قَفَلَ ـُ قَفْلًا و قُفُوْلًا و تَقَفَّلَ فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔
۳۔ قَفَلَ ـُ قَفْلًا و قُفُوْلًا الشیئَ کا اندازہ کرنا۔
۴۔ قَفَلَ ـُ قَفْلًا الطعام خوراک گرانی میں بیچنے کے لئے جمع کرنا۔ اَقْفَلَ القومَ علی الامر: کو پر جمع کرنا۔ القُفْلُ من الغزل دھاگے کا بنڈل (عامیہ)۔
۵۔ قَفَلَ ـِ قُفُوْلًا الفرسُ لاغر ہونا صفت قَافِلٌ قَفَلَ ـُ قُفُوْلًا و قَفِلَ ـَ قَفَلًا الجلدُ: کھال کا خشک ہونا۔ قَفَّلَ الجلدُ: کھال کا خشک ہونا اَقْفَلَ الجلدَ: کھال خشک کرنا۔ القَافِلُ (فا) ج قَافِلَةٌ و قُفَّالٌ: خشک کھال یا ہاتھ والا۔ خَیْلٌ قَوَافِلُ: دبلے گھوڑے۔ القَفْلُ (مص) والقَفْلَةُ والقَفَلَةُ: بوکھا ہوا درخت۔ القَفِیْلُ خشک درخت، کوڑا۔ ـــ جلدٌ قَفِیْلٌ خشک کھال۔
۶۔ قَفَّلَ الابوابَ: دروازے بند کرنا۔ اَقْفَلَ الباب و علی الباب دروازہ پر تالا لگانا۔ ـــ الباب: دروازہ بند کرنا۔ تَقَفَّلَ و اِنْقَفَلَ و اِقْتَفَلَ البابُ دروازہ بند ہونا۔ اِسْتَقْفَلَ البابُ دروازہ بند ہونا۔ ـــ الرجلُ: بخل کرنا، کہا جاتا ہے۔ اِسْتَقْفَلَتْ یَدَاہُ فَهُوَ مُسْتَقْفِلٌ یعنی وہ بخیل ہے۔ القُفْلُ ج اَقْفَالٌ و اَقْفُلٌ و قُفُوْلٌ: تالا۔ القَفْلَةُ: ہر سنی ہوئی چیز کو یاد کر لینے والا۔ القَفَّالُ: اسم مبالغہ۔ القَفِیْلُ تنگ گھاٹی۔ رَجُلٌ مُقْفَلُ الیدَیْنِ و مُقْفَلُهُمَا و مُقْتَفِلُهُمَا: بخیل کنجوس آدمی جس کے ہاتھوں سے کسی کو کچھ خیر پہنچے ہی نہیں۔
۷۔ قَفَّلَ الشجرةَ: کی شاخیں کاٹ دینا (عامیہ)۔ القیفال (ع ا) ہاتھ میں ایک رگ جس کی فصد لی جاتی ہے۔
۸۔ اَقْفَلَ المالَ ایک ہی مرتبہ میں سب مال دینا۔ القَفْلَةُ: ایک ہی مرتبہ میں دینا کہا جاتا ہے۔ اَعْطَاکَ الفًا قَفْلَةً: اس نے تمہیں ایک ہزار ایک ہی مرتبہ میں دے دیا۔
۹۔ القَفْلُوْطُ ـ الکراث الاندلسی دیکھیں۔

۞ قَفَلَ ـُ قُفُوْلًا واپس آنا، گھر آنا، لوٹنا۔ ـ قُفْلًا ہ کو بند کرنا، کو بلی سے بند کرنا، کو تالا لگانا، قفل لگانا، مقفل کرنا، چٹخنی لگانا، کو جمع کرنا، کا انبار لگانا، کا ڈھیر لگانا، کو سینت سینت کر رکھنا، کا ذخیرہ کرنا۔ قَفَّلَ و اَقْفَلَ ہ کو تالا لگانا قفل لگانا، بند کرنا، (بتی وغیرہ) بند کرنا، کی بہم رسانی منقطع کرنا، (راستہ) روکنا، کو چٹخنی لگانا، تالا لگانا، قفل لگانا، مقفل کرنا، بلی سے بند کرنا۔ قُفْل جمع اَقْفَال و قُفُوْل: تالا، قفل، بلی، چٹخنی۔ قَفَّال قفل ساز، تالوں والا۔ قَافِل جمع قَافِلَة و قُفَّال: گھر آنے والا، لوٹنے والا، وطن واپس آنے والا۔ قَافِلَة جمع قَوَافِل: کاروان، قافلہ، سپاہیوں کی قطار، کانوائے، بدرقہ۔ قافلة (تجاریة) بحریة او قافلة السُّفُن: بحری سامان تجارت، اور مسافر جو بدرقہ کی حفاظت میں پہنچائے جائیں۔ بحری (تجارتی) قافلہ۔

قفن ا۔ قَفَنَ ـُ قَفْنًا ہٗ کو گدی پر مارنا۔ لاٹھی یا کوڑے سے مارنا۔ ـــ الشاةَ بکری کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا صفت مفعولی قَفِیْنَةٌ۔ ـــ ـِ قُفُوْنًا مرنا۔ قَفَنَ رَاْسَهٗ: کا سر کاٹ دینا۔ اَقْفَنَ و اِقْتَفَنَ الشاةَ: کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا۔ القَفْنُ (مص): موت جنگ۔ القَفَنُ و القَفَنُّ: گدی۔ شاةٌ قَفِیْنٌ: ذبح کردہ بکری۔
۲۔ قَفَنَ ـُ قَفْنًا الکلبُ کتے کا منہ ڈالنا۔
۳۔ القِفَنُّ سخت بدزبان مرد۔ القَفَّانُ: امین، تولنے کا ایک پیمانہ۔ ـ قَفَّانُ کُلِّ شیئٍ: کے متعلق مکمل چھان پھٹک۔

قفو ا۔ قَفَا یَقْفُو قَفْوًا وقُفُوًّا الرجلَ کی گدی پر مارنا۔ ـــ اثرہٗ: کے نقش قدم کی پیروی کرنا۔ ـــ اللّٰهُ اثرہٗ: کو مٹانا، محو کرنا۔ قَفَّی تَقْفِیَةً فلانًا زیدًا و بزیدٍ: کو زید کے پیچھے بھیجنا۔ کہا جاتا ہے۔ قَفَّیْتُ عَلٰی اَثَرِہٖ بِفُلَانٍ: میں نے فلاں کو اس کے نقش قدم پر چلایا۔ ـــ علیه: کو پیٹنا۔ تَقَفَّی الرجلَ کا پیچھا کرنا۔ ـ الاکمةَ: ٹیلے پر چڑھنا۔ ـ واِسْتَقْفَی فلانًا بالعصا: کے پیچھے سے آکر اس کے گدی پر لاٹھی مارنا۔ اِقْتَفٰی ہٗ: کی پیروی کرنا۔ القَافِیَةُ ج قَوَافٍ: گلے کا پچھلا حصہ، شعر کا آخری کلمہ یا آخری حرف ساکن ما قبل

متحرک، مثلاً اگر آپ کہیں کہ مَا اَطْوَلَ اللَّيْلَ عَلٰى مَنْ لم يَنَمْ: تو اس میں لَمْ يَنَمْ قافیہ ہوگا۔ — من كل شيئٍ: ہر چیز کا آخری کہا جاتا ہے۔ اَتَيْتُهٗ عَلٰى قَافِيَةِ الشَّيْئِ: میں اس کے پاس فلاں چیز کے پیچھے آیا۔

القفا و القفاءُ ج اَقْفٍ و اَقْفِيَةٌ و اَقْفَاءٌ و قُفِيٌّ و قِفِيٌّ و قَفُونَ: گردن کا پچھلا حصہ، گدی (مذکر ہے کبھی مونث بھی استعمال ہوجاتا ہے) کہا جاتا ہے۔ لاَ اَفْعَلُهٗ قَفَا الدَّهْرِ: میں اس کو زمانہ بھر نہیں کروں گا۔ القُفْيَةُ: شکاری کا گڑھا جس میں وہ شکار کی گھات میں چھپتا ہے کہا جاتا ہے۔ هُوَ قَفِيَّتُهُمْ و قَفِيَّتُهُمْ: وہ ان کا قائم مقام ہے۔ یہ قَفَوْتَ اَثَرَهٗ: (تو نے اس کا پیچھا کیا) سے ماخوذ ہے، کہا جاتا ہے۔ لاَ اَفْعَلُهٗ قَفِيَّةَ الدَّهْرِ: یعنی میں اس کو زمانہ بھر نہیں کروں گا۔ شَاةٌ قَفِيَّةٌ: سر کے پیچھے کی طرف سے ذبح کی ہوئی بکری۔ جھٹکا کی ہوئی بکری۔ التَّقْفِيَةُ (مص) عند الشعراء: اشعار میں آخری حرف کا موافق ہونا۔ الكلام المُقَفّٰى: وہ کلام جس میں قافیہ اور سجع ہو۔ المَقْفِيُّ من الغنم: گردن کی طرف سے ذبح کی ہوئی بکری۔

۲۔ قَفَا ـُ قَفْوًا و قُفُوًّا الرجُلَ: پر فجور کی صریحا جھوٹی تہمت لگانا۔ تَقَافَى الرجُلَ: پر جھوٹی تہمت لگانا۔ — القوم: ایک دوسرے پر تہمت لگانا۔ القِفْوَةُ: تہمت، بری بات کی طرف نسبت کرنا، گناہ۔ القِفْيَةُ: عیب۔ القَفِيُّ: متہم بھائی۔

۳۔ قَفَا ـُ قَفْوًا و قُفُوًّا الرجُلَ بامر: کو سے متعین کرنا مخصوص کرنا۔ اَقْفَى الرجل بامر: کو سے متعین کرنا مخصوص کرنا۔ — کذا علٰی کذا: کو پر فضیلت دینا، کو پر ترجیح دینا تَقَفَّى الشَّيْئَ: کو چننا۔ — بفلان: کے اکرام کرنے میں مبالغہ کرنا۔ اِقْتَفَى الرجُلَ بامر: کو سے متعین کرنا مخصوص کرنا۔ — الشيئَ: کو اختیار کرنا۔ بفلان: کسی کے ساتھ اپنے آپ کو خاص کرنا۔ القَفَاوَةُ: مہربانی، نوازش، مہمان کا اکرام، کھانا جس سے مہمان کی تواضع کی جائے، موروثی عزت، کہا جاتا ہے: بِئْسَ القَفْوَةُ قَفْوَتُكَ: یہ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جس کا انتخاب اچھا نہ ہو، اور کہا جاتا ہے هُوَ صَفْوَتِي و قَفْوَتِي: وہ میرا برگزیدہ ہے۔ القَفِيُّ: نہایت مہربان، معزز مہمان، وہ کھانا جس سے مہمان کا اکرام کیا جائے، بہترین بھائی۔ القَفِيَّةُ: فضیلت جو تمہیں غیر پر حاصل ہو، کھانا جو مہمان کے سامنے رکھا جائے۔ رَجُلٌ مُقَفًّى و مُقَفًّى بِهٖ: چنا ہوا مرد، عزت کیا ہوا مرد۔

۴۔ قَفِيَ تَقْفِيَةً: آنا۔

۵۔ القَفْوَةُ: غبار جو بارش کی ابتدا میں اٹھتا ہے۔ القَفِيَّةُ: گوشہ۔

قفی: قَفِيَ ـَ قَفًا الرجُلَ: کی گدی پر مارنا، کو بے حیائی سے متہم کرنا۔ القِفْيَةُ: عیب۔

قفل: القَاقُلَّةُ او الهَالُ (ن) الانجی: ایک پھل کا نام۔ القَاقُلَّى: ایک قسم کی نمکین گھاس جو اشنان کے مشابہ ہوتی ہے۔ Saltwort.

ققم: القَاقُمُ و القَاقُوْمُ (ح): ایک جانور جو نیولے کی شکل کا اور اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے اس سے بو آتی ہے اس کی کھال سے عمدہ اور بیش قیمت پوستین بنائی جاتی ہے (یہ غیر عربی لفظ ہے)۔

☆ قفی: قافیہ بندی کرنا، ہم قافیہ ہونا۔ — ۵۵ / ب: کو کسی کے پیچھے بھیجنا۔ اِقْتَفَى اَثَرَهٗ: کے نقش قدم کی پیروی کرنا، کا تعاقب کرنا، کی مثال پر عمل کرنا، کے نقش قدم پر چلنا۔ قَفًا (مذکر و مونث) جمع اَقْفِيَة و اَقْفٍ و اَقْفَاء و قُفِيّ و قِفِيّ: گدی، پشت سر، پشت، دوسری جانب، (کپڑے کی) الٹی طرف۔ اِقْتِفَاء: (کسی کے) نقش قدم پر لینا، کے نقش قدم کی پیروی۔ قَافِيَة: جمع قَوَافٍ: قافیہ، ذو معونیت، گدی۔

قلّ: قَلَّ ـِ قِلًّا و قُلًّا و قِلَّةً: کم ہونا اور کبھی قَلَّ کے ساتھ مَا کافہ کا الحاق ہوتا ہے جیسے قَلَّمَا جِئْتُكَ: اس صورت میں فعل نہیں رہتا اور فاعل کا تقاضا نہیں ہوتا اور قلما دو معنی کے لئے آتا ہے کبھی محض نفی کے لئے اور کبھی تھوڑی سی چیز ثابت کرنے کے لئے مستعمل ہے۔ — الرجُلُ: کم مال والا ہونا۔ الجِسْمُ: بدن کا دبلا اور چھوٹا سا ہونا، کہا جاتا ہے هُوَ يَقِلُّ عَنْ كَذَا: یعنی وہ اس سے چھوٹا ہے۔ قَلَّلَ الشَّيْئَ: کو کم کرنا۔ — الشيئَ فی عین فلان: کو کچھ کم تر دکھلانا۔ قَالَ لَهُ العطاءَ: کو تھوڑا دینا۔ اَقَلَّ الشَّيْئَ: کو کم کرنا۔ — الرجُلُ: کم لانا، کم مال والا ہونا محتاج ہونا۔ تَقَلَّلَ الشَّيْئَ: کو کم سمجھنا۔ تَقَالَّ الشَّيْئَ: کو کم گننا۔ اِسْتَقَلَّ الشيئَ: کو گننا اور کم سمجھنا۔

القِلُّ: چھوٹی دیوار۔ و القُلُّ: کم۔ — من الشيئ: کم تر چیز، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ قُلٌّ: اکیلا آدمی۔ هُوَ قُلُّ ابْنُ قُلٍّ: وہ اور اس کا باپ غیر معروف آدمی ہے اور قُلُّ رَجُلٍ اَوْ اَقَلُّ رَجُلٍ يَقُولُ ذَالِكَ اِلَّا زَيْدٌ: یعنی سوائے زید کے اس بات کو کوئی نہیں کہتا۔ القِلَّةُ ج قِلَلٌ: کمی۔ القُلّٰى: پست قد لڑکی۔ القَلِيْلُ ج قَلِيْلُوْنَ و اَقِلَّاءُ و قُلُلٌ و قُلُلُوْنَ مونث قَلِيْلَةٌ ج قَلِيْلَاتٌ و قَلَائِلُ: کم، لاغر، کہا جاتا ہے رَجُلٌ قَلِيْلُ الخَيْرِ: کم خیر مرد اور قَلِيْلٌ مِنَ الرجالِ يقولُ ذالك: یعنی اس کو کوئی نہیں کہتا۔ اور مَا اَخَذْتُ مِنْهُ قَلِيْلَةً وَلَا كَثِيْرَةً: میں نے اس سے کچھ نہیں لیا، تائے تانیث صرف نفی کی صورت میں داخل ہوتی ہے۔ القُلُّ من الناس: متفرق لوگ۔ القُلَالُ و القُلَالُ ج قُلُلٌ: کم چیز۔ و الاَقَلُّ: زیادہ کم۔ — و المُقِلُّ: فقیر جس کے پاس کچھ ہو۔ قَوْمٌ اَقِلَّةٌ: گھٹیا قسم کے لوگ۔

۲۔ قَلَّ ـُ قِلًّا و قُلًّا و قِلَّةً الشَّيْئُ: بلند ہونا۔ قَلَّ قَلًّا الشَّيْئَ: کو اٹھانا۔ — هٗ عن الارض: کو سے بلند کرنا، اٹھانا۔ اَقَلَّ الشَّيْئَ: کو بلند کرنا۔ لیجانا۔ ته الرعدة: کو کپکپی لگنا۔ تَقَالَّتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا بلند ہونا۔ اِسْتَقَلَّ الشَّيْئَ: کو اٹھانا اور بلند کرنا۔ — الطائرُ فی طیرانه: پرندہ کا اڑان میں بلند ہونا۔ — القوم: کوچ کرنا۔ — السحابُ: بادل کا بلند ہونا۔ — فلانٌ غضبًا: ناراضگی کی وجہ سے اٹھ جانا۔ — ته الرعدةُ: کو کپوانا۔ — بالامر: کی طاقت رکھنا۔ — برأيه: رائے میں متفرد ہونا۔ — بكذا: میں اکیلا ہونا اور اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ القِلُّ: کپکپی۔ القُلَّةُ ج قُلَلٌ و قِلَالٌ: سر یا پہاڑ یا ہر چیز کا بالائی حصہ، بڑا مٹکا، چھوٹا کوزہ۔ قُلَّةُ السَّيْفِ: تلوار کے قبضہ کی چاندی یا لوہے سے زیبائش۔ القِلَالُ: زمین سے انگور کی شاخوں کو اٹھانے والی تھونی۔ القَلَّةُ: مرض سے صحت یابی یا حصول دولت۔ القِلَّةُ ج قِلَلٌ: مرض سے صحت یا حصول دولت، کپکپی، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ طَوِيْلُ القِلَّةِ: یعنی لمبے قد کا مرد۔ قُلَالَةُ الجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی۔ الاِسْتِقْلَالُ (مص): ملک کی آزادی و خود مختاری۔ المُسْتَقِلُّ (فا): کہا جاتا ہے هُوَ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهٖ: وہ خود مختار ہے اور بِلَادٌ مُسْتَقِلَّةٌ: اپنے معاملات میں خود مختار ملک۔ المُقَلَّلُ (مفع) من السيوف: تلوار جس کے قبضہ پر چاندی یا لوہا لگا ہوا ہو۔

۳۔ القُلَّةُ ج قُلَلٌ و قِلَالٌ: لوگوں کی جماعت۔ القِلِّيَّةُ: نصاری کے گرجا کے مشابہ عمارت کہا جاتا ہے۔ رَحَلُوْا بِقِلِّيَّتِهِمْ: وہ سب کوچ کر گئے اور اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔ اَكَلَ الضَّبَّ بِقِلِّيَّتِهٖ: یعنی وہ گوہ کو کھال اور ہڈی سمیت کھا گیا۔ اور اَخَذَهٗ بِقِلِّيَّتِهٖ وَبِقِلِّيْلَتِهٖ و بِاَقْلِيْلَاهُ و بِقِلِّيْلَاهُ: اس نے سب لے لیا۔

۴۔ قَلْقَلَ قَلْقَلَةً: آواز کرنا۔ قَلْقَلَ قَلْقَلَةً و قِلْقَالًا و قَلْقَالًا الحزنُ دَمْعَهٗ: غم کا اس کے آنسو بہانا۔ — الشيئَ: کو حرکت دینا۔ — فی الارض: زمین میں چلنا۔ تَقَلْقَلَ: متحرک ہونا، ہلکا ہونا اور تیز چلنا۔ — فی

البلاد: آنا جانا۔ القَلقَال: مسلسل سفر پر رہنے والا، ہمیشہ سفر پر رہنے والا۔ القُلقُل: سفر میں ہلکا پھلکا۔ ـــ والقَلاقِل: سریع الحرکت مددگار۔ القِلقِل و القُلقُلانُ (ن): انار کے مشابہ ایک درخت جسے مرچ کے برابر گول نرم اور سیاہ رنگ کے دانے لگتے ہیں۔ حُرُوفُ القَلقَلَةِ: یہ پانچ حروف ہیں ب، ج، د، ط، ق۔

○ اِلّا مَاقَلّ ونَدَرَ: صرف چند استثناءات کے ساتھ۔ اِستَقَلَّ بِحِمْلٍ: کوئی بوجھ ذمے لینا، استقل بِصُنعِهِ: یہ اس نے اکیلے ہی بنایا ہے، اسے صرف اسی نے بنایا ہے۔ اِستَقَلَّ بِمُهِمَّةٍ (بِوَاجِبٍ): کوئی کام یا فرض اپنے ذمے لینا۔ قَلَّما: کبھی کبھار، شاذ و نادر، شاذ ہی، بمشکل۔ قِلّ کپکپی، لرزہ، لہر (خوشی یا خوف کی) قِلّة بحالیٔ صحت، صحت یابی، آسودہ حالی کی بحالی۔ قُلّة بلند ترین جگہ، چوٹی، نوک، سرا، پھننگ، (توپ کا) گولا جمع قُلَل جگ، صراحی، جھجری۔ (قِلّة الاحساس: بے حسی، کند ذہنی، قِلّةُ الحياء: بے شرمی، بے حیائی۔ قِلّةُ الصبر: بے صبری، بے تابی۔ قلة الوجود: کمی، قلت، کمیابی، اندرت۔ بِقَلِيتِهِ: مکمل طور پر، پوری طرح، سارا، تمام کا تمام، تمام تر۔ رَحَلوا بقليتهم: وہ سب اکٹھے روانہ ہوئے یا مع سامان کوچ کر گئے۔ قَلِيلاً: ایک حد تک، کسی حد تک، کچھ، کبھی کبھار، شاذ و نادر۔ قليلاً ما: کبھی کبھار، شاذ و نادر۔ قليلاً قليلاً: تھوڑی دیر میں، کچھ دیر بعد، بتدریج۔ الكُلّ الا قليلاً: تقریباً ہر چیز، تقریباً سب بعدَ قليل: تھوڑی دیر بعد عن قليلٍ یا عَمّا قليل: جلد، تھوڑی دیر بعد، ليس منه لا بِقليلٍ ولا بِكثيرٍ: سے مطلقاً کوئی تعلق نہ ہونا۔ قليل الادب: غیر مہذب ناشائستہ، گنواروں کا سا، گستاخ۔ قليل الحياء: بے شرم، بے حیاء۔ قليل الارتفاع: نیچا، قليل الصبر: بے صبر، بیتاب، شاذ قليل الوجود: نہ ہونے کے برابر، کمیاب۔ اَقَلّ: (کم تر، (سے) کم (سے) چھوٹا۔ شاذ تر۔ الاَقَلّ: کم از کم۔ على الاقل يا بالاقل: کم از کم۔ على اقل تقدير بمعنی على الاقل۔ لا اَقَلّ من ان: آدمی کم از کم جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ، (میں آپ وغیرہ) کم از کم۔ اقل من القليل: بالکل غیر اہم، قریب قریب ناقابل ذکر، یونہی سا۔ واقل من هذا و ذلك ان: سے قطع نظر۔ مُقِلّ: غریب، مفلس، قلاش۔ مُستَقِل: آزاد، خود مختار، جدا، الگ۔ خاص استقلال: آزادی۔ استقلالی تحریک آزادی کا حامی، آزادی کا یا آزادی سے متعلق۔

قلب: ۱۔ قَلَبَ ـِ قَلبًا الشيئَ: کو الٹ پلٹ کر دینا، اوپر کا نیچے کر دینا۔ اندر کا باہر کر دینا۔ ـــ القوم: کو پھیر دینا، کہا جاتا ہے قَلَبَ المُعَلِّمُ الصِّبيَانَ: معلم نے بچوں کو ان کے گھر لوٹا دیا۔ ـ ت البسرةُ: کچی کھجور کا سرخ ہونا۔ ـــ المجنونُ عينَهُ: غضبناک ہونا۔ ـــ الارضَ للزراعة: ہل کے ساتھ زمین کی اندرونی تہہ کو الٹ پلٹ کرنا کہا جاتا ہے۔ قلب الامر ظهرًا لبطنٍ: اس نے معاملہ کی آزمائش کی۔ قَلَبَ ـُ قَلبًا هُ: کے دل پر مارنا۔ ـ النخلةَ: کا گودا نکالنا۔ ـ اللّٰهُ فلانًا اليه: اللہ کا کسی کو موت دینا۔ قَلِبَ ـَ قَلَبًا: الٹے ہونٹوں والا ہونا صفت اَقلَبُ ـ ت الشفةُ: ہونٹ کا الٹا ہونا صفت۔ قَلبَاءُ۔ قَلِبَ البعيرُ: اونٹ کا دل کی بیماری والا ہونا۔ قَلَّبَ هُ: بمعنی قَلَبَهُ اور تشدید مبالغہ یا تکثیر کے لئے ہے کہا جاتا ہے۔ اَصبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيهِ: وہ نادم ہونے لگا اور کہا جاتا ہے۔ قَلَّبَ الاُمُورَ: اس نے امور کے انجام پر نظر ڈالی۔ اَقلَبَ الشيئَ: کو الٹ دینا۔ ـ الخبزُ: روٹی الٹنے کے قابل ہونا۔ العنبُ: انگور کے اوپر کا حصہ خشک ہونا۔ ـــ القوم: دل کی بیماری میں مبتلا اونٹوں کا مالک ہونا۔ ـ ہ اللّٰه اليه: اللہ کا کسی کو مارنا۔ تقلّبَ: پلٹنا۔ ـ على فراشه: کروٹیں لینا۔ ـ في الامور: میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا، کہا جاتا ہے۔ اَنَا اَتَقَلَّبُ فِي نِعْمَائِهِ: میں اس کی نعمتوں میں اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہوں۔ اِنقَلَبَ: الٹایا جانا، اوندھا ہونا، واپس ہونا۔ القَالِبُ (فا) ج قَوَالِبُ: جوتا بنانے کا فرمہ۔ سرخ رنگ کی کچی کھجور، کہا جاتا ہے شَاةٌ قَالِبُ لَونٍ: ماں کے مخالف رنگ کی بکری۔ القَالَبُ ج قَوَالِبُ: سانچہ۔ القُلَابُ (طب): دل کی بیماری۔ القَلبُ (مص) ج قُلُوبٌ (ع ا): دل، عقل۔ ـــ قَلبُ الجَيشِ: فوج کا درمیانی حصہ۔ ـ قلبُ كل شيئ: گودا، خالص کہا جاتا ہے جِئتُكَ بِهٰذَا الاَمرِ قَلبًا: میں تمہارے پاس محض اسی کام کے لئے آیا اور کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ قَلبٌ: یعنی خالص النسب۔ اور اس میں مذکر و مونث واحد جمع سب برابر ہیں اور کبھی کہا جاتا ہے۔ اِمرَاَةٌ قَلبَةٌ افعال القلوب ظن اور اس کے امثال قَلَبٌ ج اَقلَابٌ و قُلُوبٌ و قِلَبَةٌ من الشجر: درخت کے اندر کا نرم گودا۔ ـ قَلبُ النَّخلَةِ: کھجور کا گودا۔ القُلبُ والقِلبُ ج اَقلَابٌ و قُلُوبٌ وقِلبَةٌ من الشجر: درخت کے اندر کا نرم گودا۔ القُلبَةُ: سرخی ـــ (ط): ابالی ہوئی گندم (عامیہ)۔ القُلَبَةُ: وہ بیماری جس سے بیمار بستر پر تڑپے۔ القُلَّبُ: پلٹنے والا، بہت پلٹنے والا، کہا جاتا ہے رَجُلٌ حُوَّلٌ قُلَّبٌ یا حُوَّلِيٌّ قُلَّبِيٌّ: یعنی حیلہ گر، معاملہ کے الٹ پلٹ کا ماہر۔ القَلُوبُ: بہت الٹنے پلٹنے والا۔ القَلِيبُ ج قُلُبٌ و قُلُبٌ واَقلِبَةٌ: کنواں، پرانا کنواں (مذکر اور کبھی مونث استعمال کیا جاتا ہے)۔ المِقلَبُ: ہل۔ المَقلُوبَةُ (مفع): کان۔ المُنقَلَبُ: لوٹنے کی جگہ۔ انقلاب کا اسم ظرف، کہا جاتا ہے كُلُّ امرِيٍّ يَصِيرُ اِلَى مُنقَلَبِهِ: ہر شخص اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔

۲۔ قَلبُ العَقرَبِ: منازل قمر میں سے ایک منزل کا نام۔ القُلبُ: کنگن۔ ـ (ح): سفید سانپ۔ ـ(ن): کاسرالجر دیکھیں۔ القَلُوبُ والقِلَابُ (ح): بھیڑیا۔ القَلَّوبُ والقِلَّوبُ والقِلِّيبُ (ح): بھیڑیا۔ ـ (ح): شیر۔

قلت: ۱۔ قَلِتَ ـَ قَلَتًا: ہلاک ہونا۔ اَقلَتَ هُ: کو ہلاک کرنا۔ ـــ هُ فَقَلِتَ: اس نے اسے فاسد کیا پس وہ فاسد ہو گیا۔ ـــ ت المراَةُ و كلُّ انثى: بے اولاد ہونا اور قَلَت اسم ہے۔ المِقلَاتُ ج مَقَالِيتُ: وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہے، وہ عورت جس کے ہاں صرف ایک بچہ ہو پھر وہ حاملہ نہ ہو۔ المَقلَتَةُ: ہلاکت، خوف ناک جگہ۔

۲۔ القَلتُ ج قِلَاتٌ: چٹان کا گڑھا، آنکھ وغیرہ کا گڑھا، عضو کے ہر گڑھے کو قَلتٌ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ طَعَنَهُ فِي قَلتِ خَاصِرَتِهِ: اس نے اس کے کوکھ کے گڑھے میں نیزہ مارا، اور کہا جاتا ہے۔ طَعَنَهُ فِي قَلتَي تَرقُوَتَيهِ: اس نے اس کی دو ہنسلیوں کے بیچ کے گڑھے میں نیزہ مارا۔ رَجُلٌ قِلتٌ وقَلِتٌ: کم گوشت والا۔ القُلتَةُ: دونوں مونچھوں کے درمیان کا گڑھا۔ ـ شَاةٌ قَلتَةٌ: بکری جس کا دودھ میٹھا نہ ہو۔

○ قَلَبَهُ رأساً: کو الٹانا۔ قلب له ظَهرَ المِجَنِّ: کو ڈھال کی پشت دکھانا، سے سرد مہری یا رکھائی سے پیش آنا، بے رخی سے کام لینا، بے اعتنائی برتنا، کا دشمن بن جانا۔ قَلَّبَهُ بين يديهِ: کو اپنے ہاتھوں میں چاروں طرف گھمانا، کو مضطرب کرنا۔ قَلَّبَهُ بعقلهِ: پر غور و فکر کرنا۔ قَلَبَهُ ظَهرًا لِبَطنٍ: کو الٹا کرنا، الٹانا، الٹنا پلٹنا۔ قَلَّبَ كَفَّيهِ: پچھتانا۔ متاسف ہونا، سراسیمہ ہونا۔ قَلَّبَ فيه البصرَ: کی جانچ پڑتال کرنا۔ قلبَ فيه النظرَ: کی جانچ پڑتال کرنا۔ تَقَلَّبَ في وَظَائِفَ عَدِيدَةٍ: وہ کئی مناصب پر فائز رہا۔ تَقَلَّبَ في النِّعمَةِ (يا النعيم) اور تقلبَ في اعطاف العيش الناعم: آسودہ زندگی اِنقَلَبَ ظهرًا لِبَطنٍ: الٹنا، الٹ جانا، مکمل طور پر تباہ و برباد

هونا۔ اِنْقَلَبَ اِلی الھجوم: حملہ کرنا، حملہ میں پہل
کرنا۔ قَلْب: الٹا ہونا یا کرنا، اوندھا کرنا یا ہونا، انقلاب،
تبدیلی، تغیر، قلب ماہیت، ادل بدل (الفاظ کا)، قلب
حروف، تقلیب (گرامر) اوندھی کھوپڑی کا ہونا،
(حکومت کا) خاتمہ کرنا۔ قلب جمع قلوب: دل،
وسط، مرکز، گودا، مغز، خلاصہ، مخلص، ست، جوہر،
روح، لب لباب، بہترین یا منتخب ترین حصہ، ذہن،
روح، قلب الأسد: ایک ستارہ کا نام، اسد نامی ستاروں
کے جھرمٹ کا سب سے روشن/اہم ستارہ۔ قلب الھجوم:
سنٹر فارورڈ۔ سویداء القلب: دل کا انتہائی اندر کا
حصہ، دل کا بنیادی حصہ۔ ضعیف القلب: بزدل،
ڈرپوک، دل کا ہلکا، قاسی القلب: سنگدل، قساوۃ
القلب: سنگدلی، انقباض القلب: دل شکستگی، شکستہ
دلی۔ عن ظہر القلب: زبانی (جیسے زبانی حفظ کرنا یا
زبانی یاد کرنا میں) من صمیم القلب: انتہائی خلوص
سے، دل کی گہرائی سے۔ من کلِّ قلبه: پورے دل
سے۔ قلبًا و قالبًا: جان و دل سے۔ قُلُوباتُ
(السُّکَّر): ٹافیاں، چوسنے والی میٹھی ٹکیاں (خواہ دوا
کی ہوں)۔ قَلبِیًّا: تپاک سے، جوش وخروش سے،
خلوص سے۔ عربة قَلّابَة: چھکڑا، قَلّاب خلّاط:
گھومنے والا آمیزہ کار (Rotary Mixer)
مَقْلَب: کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، سازش، ساز باز،
اندر ہی اندر گٹھ جوڑ، اپریل فول کا مذاق۔ جمع مَقَالب
مقلب جمع مقالب: کھرپا عند تقلیب النظر:
زیادہ قریبی معائنہ یا جائزہ پر۔ تَقَلُّب جَوِّی: موسم
کی تبدیلی۔ سریع التقلب: بہت متلون، ناپائیدار،
ہر آن بدلنے والا۔ دائرۃ الانقلاب: خط سرطان یا خط
جدی۔ مَقْلُوب: ایسا عدد جس سے مقررہ عدد کو ضرب
دی جائے تو حاصل ایک ہو۔ (ریاضی)۔ مُتَقَلِّب و
متقلب الاطوار (یا الاحوال) پس و پیش کرنے
والا، متذبذب، متلون۔ مُنْقَلَبٌ شَتَوِیٌّ: خط جدی۔
مُنْقَلَبٌ صَیْفِیٌّ: خط سرطان۔ قَلْبَق: لمبی، عموماً سطوانی،
پشم کی ٹوپی۔

قلح: ۱۔ قَلِحَ ـَ قَلَحًا: زرد دانتوں والا ہونا۔ ــ ت
اسنانُهُ: کے دانتوں کا زرد ہونا صفت مذکر قَلِحٌ و
اَقْلَحُ مونث قَلِحَةٌ و قَلْحَاءُ ج قُلْحٌ۔ قَلَّحَ هُ:
دانتوں کو زردی سے صاف کرنا۔ تَقَلَّحَ: میلے کپڑے
والا ہونا۔ القَلَحُ (ح): بوڑھا گدھا۔ القَلِحُ: میلا
کپڑا۔ القَلَحُ و القُلاحُ: زردی جو دانتوں پر آجاتی
ہے، اونٹ کے دانتوں کے درمیان کا سبزہ۔ الاَقْلَحُ
(ح): گبریلا۔ رَجُلٌ اَقْلَحُ تجربہ کیا ہوا مرد۔

۲۔ تَقَلَّحَ البلادَ: قحط کے زمانہ میں شہروں میں کمائی کرنا۔
۳۔ اِقْلَحَمَّ الرجلُ: بہت بوڑھا ہونا۔ شَیْخٌ قِلْحَامَةٌ:
بہت بوڑھا۔ القِلْحَمُّ: بوڑھا، متکبر
۴۔ القَلْحُونُ (ن) توت کی تازہ شاخ (عامیہ سریانیہ)
۵۔ قَولحة جمع قَوَالِح: (مکی وغیرہ کا) بھٹا۔

قلخ: قَلَخَ ــ قَلْخًا و قَلِیخًا الشجرةَ: درخت
اکھاڑنا۔ قَلَخَ قَلْخًا و قَلِیخًا و قُلاخًا البعیرُ:
اونٹ کا بڑبڑانا۔ قَلَخَهُ بالسوط: کو کوڑا مارنا۔ ــ
النبتُ: نباتات کا سخت ہونا۔ القَلْخُ (ن) کھوکھلا،
نرکل یا بانس۔ (ح): بوڑھا گدھا۔ ــ و القُلاخُ:
بڑے سر والا۔

قلد: ۱۔ قَلَدَ ــ قَلْدًا الماءَ فی الحوض او
الشرابَ فی البطن: پانی کو حوض میں یا مشروب کو
پیٹ میں جمع کرنا۔ ــ الزرعَ: کھیتی سیراب کرنا۔ ــ
ت الحمّی فلانًا: کو بخار ہر روز آنا۔ اَقْلَدَ البحرُ
علیهم: کو غرق کر دینا۔ تقالَدَ القومُ الماءَ: پانی
پر باری باری آنا۔ اِقْتَلَدَ الماءَ: پانی کا چلو لینا۔ اِقْلَوَّدَ
النعاسُ فلانًا: پر نیند کا غالب آنا۔ القِلْدُ ج اَقْلادٌ:
پانی کا حصہ، بڑے پیالے کے مشابہ برتن، چوتھیا بخار کا
دن، بخار کی باری کا دن، آبپاشی کا دن، آبیاری کا دن،
آسمانی بارش، کہا جاتا ہے۔ سَقَتْنَا السَّمَاءُ قِلْدًا فِی
کُلِّ اُسْبُوعٍ: یعنی ہم پر ہر ہفتہ میں بارش ہوئی۔ القَلُّوْدُ:
بہت پانی والا کنواں۔ المِقْلَدُ: برتن، توبرہ، ناپنے کا
پیمانہ۔
۲۔ قَلَدَ ـِ قَلْدًا الحبلَ: رسی بٹنا۔ ــ الحدیدةَ: لوہے کو
باریک کرنا اور کسی چیز پر موڑنا ــ الشیئَ: کو موڑنا۔
القَلْدُ (مص) ج اَقْلادٌ و قُلُودٌ: پیچ دیا ہوا اور اینٹھا
ہوا کنگن، (کہا جاتا ہے۔ سِوَارٌ قَلْدٌ: گوندھا ہوا
کنگن) رسی کی لڑی جو لڑی سے لپٹی ہوئی ہو القِلادُ
و الاَقْلِیدُ: انگوٹھی یا بالی کے گرد لپیٹنے کے لئے پیتل یا
تانبے کا تار۔ القَلِیدُ و المَقْلُودُ: بٹا ہوا۔ المِقْلَدُ:
ٹیڑھے سر کی چھڑی۔
۳۔ قَلَدَ ـِ قَلَّدَ الرجلَ السیفَ: کو تلوار کا پرتلہ لگانا،
پہنانا قَلَّدَهُ السیفَ: تلوار کو قائل کرنا۔ کے گلے میں
تلوار کا پرتلہ ڈالنا ــ هُ القلادةَ: کو ہار پہنانا۔ ــ
البعیرَ: اونٹ کی گردن میں کھینچنے کے لئے رسا ڈالنا۔
کہا جاتا ہے۔ قَلِّدْ حَبْلَهُ: وہ آزاد چھوڑ دیا گیا۔ ــ هُ
العملَ: کو کام سپرد کرنا۔ ــ هُ الدَّیْنَ: کو قرض سونپ
دینا۔ ــ فلانًا القضاءَ فی بلد کذا: کو کا قاضی بنانا،
کہا جاتا ہے قَلَّدَهُ فِی کَذَا اس نے اس کی فلاں
بات میں بغیر کسی غور وفکر کے پیروی کی۔ تَقَلَّدَ السیفَ:
گلے میں تلوار کا پرتلہ ڈالنا۔ ــ الامرَ: کا ذمہ دار ہونا،
کو برداشت کرنا۔ ــ ت المرأةُ القلادةَ: عورت کا
ہار پہننا۔ القِلْدُ: کہا جاتا ہے اَعْطَیْتُهُ قِلْدَ اَمْرِیْ:
میں نے اپنے معاملہ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔
القَلادَةُ (ن): ایک پودے کا نام۔ القِلادَةُ ج
قَلائِدُ و قِلادٌ: ہار، مالا۔ ــ (فلک): چھ ستارے جن کو
قوس بھی کہتے ہیں۔ قَلائِدُ الشِّعْرِ: اشعار جو نفاست
کی بناء پر یاد کئے جائیں اور محفوظ رکھے جائیں۔
المِقْلِیدُ: خزانہ۔ الاِقْلِیدُ ج اَقالِیدُ: کنجی، چابی
(یونانیہ)۔ التَقْلِیدُ (مص) ج تَقَالِیدُ و تَقْلِیدَاتٌ:
فرمان شاہی جو پیروی کے لئے حاکم کے نام جاری ہو،
عقائد، عادات، علوم اور اعمال (جو آباؤ اجداد، اساتذہ
اور معاشرے سے منتقل ہوئے ہوں) التَقَالِیدُ
عند النصاریٰ: عیسائیوں کی سینہ بسینہ مذہبی باتیں۔
جو بائبل میں درج نہ ہوں۔ المِقْلادُ ج مَقَالِیدُ: خزانہ
ــ و المِقْلَدُ ج مَقَالِدُ: کنجی، کہا جاتا ہے۔ ضَاقَتْ
مَقَالِدُهُ او مَقَالِیدُهُ: اس کے اوپر اس کے معاملات
تنگ ہو گئے۔ اَلْقَی اِلیه مقالیدَ الامور: اس نے
اپنے امور اسے سونپ دیئے۔ المُقَلَّدُ (مفع): سردار
قوم، آگے بڑھنے والا گھوڑا، ہار پہننے کی جگہ، کندھوں پر
پرتلہ ڈالنے کی جگہ۔ مُقَلَّدَاتُ الشِّعْرِ: اشعار جو
نفاست کی بناء پر یاد کئے جائیں اور محفوظ رکھے جائیں۔
القِلْدُ ج اَقْلادٌ: جماعت۔ القِلْدَةُ: گھی کی تلچھٹ،
کھجور۔ القَلْدَةُ: دونوں مونچھوں کے درمیان گڑھا۔

قلز: قَلَزَ ـِ قَلْزًا الرجلُ: پینا، چست ہونا، کودنا، لنگڑانا۔
ــ هُ الماءَ: کو پانی گھونٹ گھونٹ پلانا۔ تَقَلَّزَ
الوعلُ: پہاڑی بکری کا دوڑنا، چست ہونا۔ اِقْتَلَزَ
الکاسَ: کو گھونٹ گھونٹ پینا۔ القُلْزُ من الرجال:
ہلکا پھلکا کمزور مرد۔ القِلِزُّ مونث قِلِزَّةٌ و القُلَّزُ
مونث قُلَّزَةٌ: مضبوط مرد۔
۲۔ قَلَزَ ـُ قَلْزًا هُ: کو مارنا۔ ــ الارضَ بعصاه: زمین کو
لاٹھی سے کریدنا۔ ــ بسهمه او بقفیته: تیر پھینکنا۔ یا
الٹی کرنا۔ و قَلَزَ و اَقْلَزَ الجرادُ: انڈے دینے کے
لئے دم کو زمین پر مارنا۔ (ٹڈی کا)
۳۔ القِلِزُّ و القُلُزُّ مونث قِلِزَّةٌ و قُلُزَّةٌ: سخت تانبا کہ جس کو
لوہا کاٹ نہ سکے۔
۴۔ قَلْزَمَ الشیئَ: کو نگلنا۔ تَقَلْزَمَ الشیئَ: کو نگلنا۔ ــ
الرجلُ: کنجوسی کی وجہ سے مرنا۔ القِلْزِم: کمینہ۔
القُلْزُمُ: مصر اور مکہ کے درمیان ایک تاریخی شہر کا نام
ہے اور اس کے نام پر بحر قلزم ہے۔ القَلْزَمَةُ (مص):
کمینہ پن، شور۔

ⓒ مقالید الأمور: بنیادی مناصب، اقتدار۔ مقالیدُ الحکم: حکومت یا اقتدار کی لگامیں، کنٹرول۔ تسلّمَ مقالیدَ الحکم: حکومت (کا کام) سنبھالنا، اقتدار پر قبضہ کرنا۔ اُلقی الیہ مقالید الامور: کے سپرد انتظام، بندوست، دیکھ بھال کرنا، کو نگران مقرر کرنا۔ تقلید جمع تقالید: نقل اتارنا، نقل، خیالات و تصورات کی اندھی اور بے چون و چرا قبولیت، (کسی ماخذ کی مجاز حیثیت پر) غیر معترضانہ ایمان، کسی مذہب کے قانونی فیصلہ کو اپنا لینا (جمع تقالید) روایت، ریت، رسم، رواج، دستور۔ تقلیدی: روایتی، رواجی، رسمی، تقلیدی، مبنی بر غیر معترضانہ ایمان۔ مقلّد: نقل کیا ہوا، نقل، تقلید کیا ہوا، جعلی، روایت سے بندھا ہوا، مصنوعی، بناوٹی۔ اقلید جمع اقالید: چابی۔ بحر القلزم: بحر قلزم، بحرِ سمندر۔

قلس: ا۔قلس ۔ قلسا و قلسانا الرجل: کھانے یا پانی کا پیٹ سے کے منہ تک آنا (منہ بھر کر یا کم، جب بہت زیادہ ہو جائے تو الٹی کہلاتا ہے)۔ بہت شراب پینا۔ ـــت نفسُہ: کا جی متلانا۔ ـــت الکاسُ بالشراب: پیالہ کا چھلک پڑنا۔ ـــ الاناءُ: چھلک پڑنا۔ ـــ البحرُ بالماء الطعنةُ بالدم: سمندر کا کناروں سے باہر آنا، چھرے کے گھاؤ سے خون باہر نکلنا۔ ـــ النحلُ العسلَ: شہد کی مکھی کا شہد نکالنا۔ ـــت السحابةُ الندی: تھوڑا برسنا۔ القالسُ: وہ شخص کہ بدہضمی کی وجہ سے جس کے منہ تک کھانا پانی باہر آ جائے۔ القَلَسُ: بدہضمی کی وجہ سے کھانا پانی جو منہ تک آئے، قئی۔ قَلَسُ البحر: بادل۔ القَلّاسُ: اسم مبالغہ۔ بحرٌ قلّاسٌ: زیادہ جھاگ پھینکنے والا سمندر۔ القَلِیسُ (ح): شہد، شہد کی مکھی۔

۲۔قلَس ۔ قلْسًا و قلَسانًا الرجلُ: گانے میں ناچنا، عمدہ گانا۔ قلّس: دف بجانا اور گانا۔ ـــ القومُ: گا بجا کر اور کھیل کود سے بادشاہوں کا استقبال کرنا۔

۳۔قلّس: سجدہ کرنا۔ ـــ لہ: سے سینے پر ہاتھ رکھ کر عجز و انکساری ظاہر کرنا۔

۴۔قلّسَ الرجلَ: کو ٹوپی پہنانا۔ تقلّس: ٹوپی پہننا۔ القلّاسُ: ٹوپی بنانے والا۔

۵۔القَلْسُ ج قُلُوسٌ و اَقْلاسٌ: کشتی و جہاز کی موٹی رسی (یونانیہ)۔

۶۔قَلْسَی الرجلَ: کو ٹوپی پہننا۔ تقلْسَی قلْسی تقلْسِیًا: ٹوپی پہننا۔

۷۔الانقلِیس و الانقَلیس (ح): ایک قسم کی نہری اور سمندری مچھلی جو سانپ کے مانند ہوتی ہے، بام مچھلی (یونانیہ)۔

ⓒ قَلَسَ ۔ قَلْسًا: ڈکار لینا، ڈکار آنا۔ قلّس لـ: کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ ـــ علی: کو چھیڑنا، سے مذاق کرنا، کا مذاق اڑانا، منہ چڑھانا۔ ـــ ہ: کے سر پر ٹوپی (قلنسوہ) رکھنا۔ قَلْس جمع قُلُوس: بحری جہاز کھینچنے کا رسا، رسہ۔

قلش: القَلّاشُ: چھوٹا سکڑا ہوا۔ القَلاشَةُ: کوتاہی، چھوٹا پن۔ القَلّاش و الاقْلَشُ: حیلہ گر (فارسیہ)۔

ⓒ قَلَّشَ: (پرندوں کا) پر جھاڑنا، کینچلی بدلنا۔ قالوش جمع قالوشات: جوتا پوش، موزہ پوش، طوفانی موسم میں جوتوں اور پاؤں کو محفوظ رکھنے کے لئے جوتوں کے اوپر پہننے کے پتلے ربڑ کے جوتے۔ قَلْشِین جمع قَلاشِین: پٹی (جو بچاؤ کیلئے ٹانگوں یا پنڈلیوں پر لپیٹتے ہیں)۔

قلص: قلصَ ۔ قُلُوصًا الرجلُ: کودنا۔ ـــ القومُ: اکٹھا ہو کر چلنا۔ ـــ الماءُ: پانی کا ختم ہونا۔ الغلامُ: جوان ہونا۔ ـــ ت النوءُ: اوپر تک چڑھنا۔ ـــت نفسُہُ: کا جی متلانا۔ ـــ القومُ عن الدار: سے ہلکے پھلکے اور اکٹھے ہو کر چلنے کا وقت آنا۔ ـــ الظلُّ عن کذا: سے سایہ کا سمٹ آنا صفت قالص۔ ـــ الثوبُ بعد الغسل: دھونے کے بعد کپڑے کا سکڑنا۔ ـــت الشفةُ: ہونٹ کا اوپر کو سکڑنا۔ قَلِصَ ۔ قَلَصًا ت نفسُہُ: کا جی متلانا۔ قَلَّصَ ت الناقةُ براکبھا: اونٹنی کا سوار کو لے کر تیز دوڑنا، دوڑے جانا۔ ـــ القومُ: اونٹنیوں پر سوار ہونا۔ ـــت الدرعُ: زرہ کا چست ہونا۔ ـــ قمیصَہ فقلّصَ ہُوَ: کو سمیٹنا، کا سمٹنا۔ اَقْلَصَ ت الناقةُ: کا دودھ خشک ہو جانا۔ البعیرُ: کے کوہان کا کچھ حصہ ظاہر ہونا۔ ـــت الناقةُ: گرمیوں میں موٹی ہونا۔ تَقَلَّصَ: اکٹھا ہونا، سکڑنا، قریب ہونا۔ ـــ فی علم الطبیعیات: سکڑنا۔ القَلَصةُ ج قَلَصٌ و قَلَصاتٌ: پانی جو کنویں میں بکثرت ہو کر ختم ہو جائے، کہا جاتا ہے۔ ما وجدتُ فی البئر الا قَلَصَةً مِنَ الماءِ: کنویں میں میں نے صرف تھوڑا سا پانی پایا۔ القَلّاصُ: اونٹنی کو دوہنے والا۔ ـــ من المیاہ: ختم ہونے والا پانی۔ القَلُوصُ: جوان لڑکی۔ (ح): جہازی پرندہ کا چوزہ، جاری نہر جس میں گندگی وغیرہ بہہ کر جاتی ہو۔ ـــ من الابل جمع قلائص و قلاص و قُلُص و قُلْصان: لمبی ٹانگوں والی اونٹنی، جوان یا چلتی ہوئی اونٹنی، وہ اونٹنی جس پر پہلی مرتبہ سواری کی جائے۔ القَلِیصُ: بہت زیادہ۔ ـــ من المیاہ: ختم ہونے والا پانی۔ المِقْلاصُ: اونٹنی کو دوہنے والا۔ ـــ من النوق: گرمی کے موسم میں موٹی ہونے والی اونٹنی۔ ـــ مُقَلِّص: لمبی ٹانگوں والا گھوڑا۔

ⓒ قَلَصَ ۔ قُلُوصًا: سکڑنا (دھلے ہوئے کپڑے کا)، کم ہونا، گھٹنا، دھیرے دھیرے نظروں سے اوجھل ہونا (سائے کا) پیچھے ہٹنا۔ قَلَصَ ظِلُّہُ: اس کے وقار کے زوال کا وقت آ گیا، یہ کم ہو گیا، سمٹ گیا، گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ گیا۔ قلّصَ ہ: کو سکیڑنا، قریب کرنا (آستین وغیرہ) چڑھانا، اڑسنا، کو بڑھانا، جمع کرنا۔ تَقَلَّصَ ظلّہ بمعنی قلص ظلّہُ۔ اَقْلَص: زیادہ چھوٹا، زیادہ کم۔

قلط: قَلَطَ ۔ قَلْطًا عند العامة: سے میل کچیل دور کرنا (سریانیہ)۔ القَلْط عند العامة: کوڑا کرکٹ بہا لیجانا۔ القَلَطِیُّ و القِیْلِیطُ: مرد خبیث، سرکش۔ ـــ و القُلاطُ: بہت پست قد، آدمی ہو یا بلی یا کتا۔ القُلَیط عند العامہ: گندگی یا میل کچیل کا ڈھیر (سریانیہ)۔ القِلِیْطُ: خصیہ میں سوجن۔ القَلِیْطَة: روئی کی ایک قسم (عامیہ سریانیہ)۔ المَیلَط و القَیلِط: خصیہ میں سوجن والا۔

قلع: ا۔قَلَعَ ۔ قَلْعًا الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا، کو اس کی جگہ سے پھیر دینا۔ ـــ الوالی فلانا: کو معزول کرنا۔ قَلِعَ ۔ قَلَعًا و قَلَعةً الراکبُ: سوار کا زین پر جم کر نہ بیٹھنا۔ ـــ المصارعُ: کشتی کرنے کے وقت کے قدم ثابت نہ رہنا۔ قُلِعَ قَلْعًا الرجلُ: حملہ میں ثابت نہ رہنا یا زین پر جم کر نہ بیٹھنا۔ قَلَّعَ الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ قالعَا مُقالعةً: ایک دوسرے کو اکھیڑنا۔ اَقْلَعَ الامیرُ: قلعہ بنانا۔ ـــ الشیءُ: روشن ہونا۔ ـــ اصحابُ السفینة: روانہ ہونا۔ الملاحُ السفینةَ: بادبان اٹھانا۔ ـــ عن کذا: سے باز رہنا اور اسے چھوڑنا۔ ـــت الحمّی عن فلان: سے بخار کا اتر جانا کہا جاتا ہے یا سماء اقلعی۔ یعنی اے آسمان بارش سے رک جا۔

تَقَلَّعَ: جڑ سے اکھڑنا۔ ـــ فی مشیہ: آگے کو جھکتے ہوئے چلنا۔ اِقْتَلع: جڑ سے اکھڑنا۔ ـــ الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑنا، چھین لینا۔ اِنْقَلعَ: جڑ سے اکھڑنا۔ القُلُعُ: چلنے میں قوی مرد۔ القَلْعُ ج اَقْلُعٌ و قُلُوعٌ: بسولی، چرواہے کا تھیلہ۔ قَلْعُ الحُمّی: بخار کا اترنے کا دن، کہا جاتا ہے۔ تَرَکْتُہُ فِی قَلْعٍ مِن حُمّاہُ: میں نے اس کو بخار کی اتری ہوئی حالت میں چھوڑا۔ القُلْعُ: وہ شخص جو گھوڑے پر اچھی طرح نہ بیٹھ سکے، بادبان، بخار اترنے کا دن، کہا جاتا ہے۔ تَرَکْتُہُ فِی قِلْعٍ مِنْ حُمّاہُ: میں نے اسے بخار اتری ہوئی حالت میں چھوڑا۔ القَلَعُ: کھرنڈ جو کھجلی والے کے جسم پر ہو۔ پتھر جو چٹان کے نیچے ہو۔ ـــ من الحمّی: بخار

اترنے کا دن، کہا جاتا ہے۔ تَرَكْتُهُ فِي قَلَعٍ مِنْ حُمَّاهُ: میں نے اسے بخار اتری ہوئی حالت میں چھوڑا۔ القَلِعُ: کھرنڈ والا، جو حملہ یا زین پر قائم نہ رہ سکے۔۔ شَيْخٌ قَلِعٌ: کھڑے ہونے کی حالت میں آگے کو جھکنے والا بڈھا۔ القُلْعَةُ: کھرنڈ والا، کمزور جو کشتی میں جلد مغلوب ہو جائے، ہمیشہ نہ رہنے والا مال، مانگا ہوا مال، جو درخت سے اکھیڑا جائے، کہا جاتا ہے۔ هُوَ عَلَى قُلْعَةٍ: وہ سفر پر ہے اور کہا جاتا ہے۔ مَنْزِلُنَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ و قُلُعَةٍ: یعنی ہم اس مکان کے مالک نہیں۔ وهٰذَا المَنْزِلُ مَنْزِلُ قُلْعَةٍ: یعنی یہ ایسا مکان ہے کہ جب کوئی صاحب عزت آدمی آجاتا ہے تو بیٹھنے والا اٹھا دیا جاتا ہے یا بار بار اٹھنا پڑتا ہے القُلْعَةُ ج قِلَاعٌ و قُلُوعٌ: قلعہ، کھجور کا چھوٹا پودا جو کھجور کی جڑ سے اکھیڑا جائے، چرواہے کا توشہ دان۔۔ الطائرةُ (اع): بڑا جنگی ہوائی جہاز۔ القِلْعَةُ ج قِلَعٌ: قَلَعٌ کا اسم نوع، لمبا پھاڑا ہوا ٹکڑا۔ القَلَعَةُ ج قِلَاعٌ و قَلَعٌ: چٹان جو پہاڑ سے جدا ہو گئی ہو اور اس پر چڑھنا دشوار ہو۔۔ ج قَلَعٌ: بڑا ٹیلہ، قلعہ، بادل کا پہاڑ جیسا ٹکڑا۔ القُلَعَةُ: کھرنڈ والا، جگہ جس میں اس کا مالک نہ رہ سکے کہا جاتا ہے۔ مَجَالِسُ قُلْعَةٌ: ایسی نشستیں جن پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے باعزت فرد کے آنے کی وجہ سے بار بار اٹھنا پڑے، کہا جاتا ہے مَنْزِلُنَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ: یعنی ہم اس کے مالک نہیں۔ القُلَاعُ: مٹی جو خشک ہو جائے اور اس کے نیچے سانپ کی چھتری ہو، واحد قُلَاعَةٌ: خشک ہونے کے بعد پھٹی ہوئی مٹی، پھنسیاں جو منہ یا زبان پر ہوں قُلَاعُ الأُذُنِ: کان کی جڑ میں شگاف کہ جس سے پیپ وغیرہ نکلے۔ القُلَاعَةُ: پتھر یا ڈھیلا جو پھینکنے کے لئے زمین سے اکھیڑا جائے، کہا جاتا ہے رُمِيَ بِقُلَاعَةٍ: یعنی اُسے لاجواب کر دیا گیا۔ القِلَاعَةُ: کشتی و جہاز کا بادبان۔ القَلَّاعُ: وہ شخص جو حملہ یا زمین پر قائم نہ رہ سکے، سپاہی، کفن چور، سپہ سالار، بڑا جھوٹا، داڑھ اکھیڑنے والا، بادشاہوں کے پاس چغلی کھانے والا۔ القَلُوعُ ج قُلُعٌ (ح): بڑی اونٹنی، کمان جو کھینچنے میں الٹ جائے۔ إِقْلَاعُ الحُمَّى و مَقْلَعُهَا: بخار کا اترنا۔ المَقْلَعُ ج مَقَالِعُ: پتھر اکھاڑنے کی جگہ۔ المِقْلَاعُ ج مَقَالِيعُ: پتھر پھینکنے کا آلہ، گوپھن۔

۲۔ قَلِعَ ۔َ قَلَعًا و قَلَعَةً الرجلُ: کند ذہن ہونے کی وجہ سے کلام کو نہ سمجھنا۔ القَلِعُ: کند ذہن جو کلام کو نہ سمجھے۔

۳۔ القَلْعُ: عمدہ سیسہ کی کان، رَصَاصٌ قَلْعِيٌّ و قَلَعِيٌّ: عمدہ کان کا سیسہ۔ القِلْعُ: مردوں کے پہننے کی صدری۔ القَلَعُ: خون۔

۴۔ تَقَلَّعَتْ فی مشیه: اس طرح چلنا جیسے کیچڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔

۵۔ اِقْلَعَدَّ الشَّعَرُ: بال گھنگھریالے اور سخت ہونا۔۔ فلانٌ: خودسری کے ساتھ جانا۔

۶۔ قَلْعَطَ هُ فتَقَلْعَطَ (عند العامة): کو بہت میلا کچیلا کرنا جس پر اس کا بہت میلا کچیلا ہونا (سریانیہ)۔ القَلْعَطَةُ عند العامة: میلا کرنا (سریانیہ)۔ المُقَلْعَطُ عند العامة: میلا، کنجوس (سریانیہ)۔

۷۔ اِقْلَعَطَّ الشَّعَرُ: بال گھنگھریالے اور سخت ہونا۔ القَلْعَطَةُ: بالوں کا سخت گھنگھریالے ہونا۔ المُقْلَعِطّ (فا): چھوٹے اور سخت گھنگھریالے بالوں والا سر۔

۸۔ المُقْلَعِطُّ: خوف زدہ بھاگنے والا۔

۹۔ اِقْلَعَفَّ الشیئُ: سمٹنا۔ ت انامِلُ فُلَانٍ: کی انگلیوں کا سردی یا بڑھاپے کی وجہ سے جھری دار ہونا۔

○ الحُمَّى القُلَاعِيَة: پاؤں اور منہ کی بیماری۔ مَقْلَع جمع مَقَالِع: پتھر کی کان۔ اِقْلَاع: بحری جہاز کی روانگی، بحری جہاز کا چلنا، ہوائی جہاز کا اٹھنا، پرواز کرنا۔ قُلْعُوط: کافر، بدعتی۔

قلف: ۱۔ قَلَفَ ۔ِ قَلْفًا الشجرةَ: درخت سے چھال اتارنا۔۔ الظُّفُرَ: کو جڑ سے اکھاڑ لینا۔ قَلَفَ قَلْفًا و قَلْفَةً ۔ الدَّنَّ: مٹکے کے سرے پر کی مٹی چھڑانا۔ قَلَفَ ۔ُ قَلْفًا القُلْفَةَ: کو کاٹنا۔ قَلِفَ ۔َ قَلَفًا الصَّبِيُّ: بے ختنہ ہونا یا اس کے عضو تناسل کی کھال کا بڑا ہونا صفت: اَقْلَفُ۔ قَلَّفَ الجزورَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تَقَلَّفَ القشرُ عن الشجرة: درخت سے چھال کا اترنا۔ اِقْتَلَفَ الظفرَ: کو جڑ سے کاٹ لینا۔ اکھیڑنا القِلْفُ: واحد قِلْفَةٌ: درخت کی چھال۔ القِلْفَةُ: ناخن جڑ سے اکھڑا ہوا۔ القُلْفَةُ و القَلَفَةُ ج قُلَفٌ: عضو تناسل کی کھال۔ القُلَافَةُ: درخت وغیرہ کی چھال۔ القَلِيفُ: مٹکا جس کے سرے سے مٹی چھڑا دی گئی ہو۔۔ واحد قَلِيفَةٌ: دریائی کھجور جس کا چھلکا اتر گیا ہو۔ خشک میوہ ۔ ج قُلُفٌ و القَلِيفَةُ ج قَلِيفٌ و المَقْلُوفَةُ ج مَقْلُوفَاتٌ: بڑا ٹوکرہ۔ الاَقْلَفُ مونث قَلْفَاءُ ج قُلْفٌ: بے ختنہ، عضو تناسل کی بڑی کھال والا، کہا جاتا ہے۔ هُوَ اَقْلَفُ القَلْبِ: وہ اچھی باتوں کو قبول نہیں کرتا اور کہا جاتا ہے۔ عَامٌ اَقْلَفُ: سرسبز سال اور عَيْشٌ اَقْلَفُ: خوش حال زندگی۔ التَّقْلِيفُ: کھجور سے گٹھلی جدا کرنا اور برتن میں ذخیرہ کرنا۔ المَقْلُوفُ: مٹکا جس کے سرے سے مٹی چھڑائی گئی ہو۔

۲۔ قَلَفَ ۔ِ قَلْفًا الشيئَ: کو پلٹنا۔

۳۔ قَلَفَ ۔َ قَلْفًا و قَلْفَةً و قَلَّفَ السفينةَ: کشتی کے تختوں کو کھجور کے درخت کی چھال سے جوڑنا اور ان کے درمیان تارکول ڈالنا اسم القِلَافَةُ ہے۔

۴۔ اِنْقَلَفَتِ السُّرَّةُ: ناف کا موٹائی کی وجہ سے سلوٹ والی ہونا۔ القِلْفُ واحد قِلْفَةٌ: سخت جگہ۔ القَلَفَةُ من الشفاة: ہونٹ جس میں موٹائی ہو۔

۵۔ قَلْفَحَ الطعامَ: سب کھانا کھا لینا۔

۶۔ تَقَلْفَعَ عنه الشيئُ: سے کا چھل جانا۔ القِلْفَعُ و القِلْفِعُ: خشک کیچڑ کا پھٹا ہوا ٹکڑا، لوہے کے ذرات جو ڈھالتے وقت گریں۔ القِلْفِعَة: سانپ کی چھتری، زمین کی مٹی جو سانپ کی چھتری کے اگنے سے ہٹ جائے، اونٹ کی کھال پر چھال کی مانند داغ۔

○ قَلْفَة جمع قلفات: فورمین، ہل مزدور، محنت مشقت کرنے والا۔ قَلَفُون و قَلَفُونِيَة: گندہ بروزہ، عام یا سیاہ رال۔

قلق: ۱۔ قَلَقَ ۔َ قَلْقًا الشيئَ: کو حرکت دینا۔ قَلِقَ ۔َ قَلَقًا: مضطرب ہونا، بے قرار ہونا صفت مذکر قَلِقٌ و مِقْلَاقٌ: صفت مونث قَلِقَةٌ و مِقْلَاقٌ۔ اَقْلَقَ هُ: کو بے قرار کرنا۔۔ الشيئَ من مكانه: کو اس کی جگہ سے حرکت دینا۔۔ القومُ السيوفَ فی الغمد: آسانی کیلئے تلواروں کو میان ہی میں حرکت دینا۔

۲۔ القُلْقَاسُ (ن): اروی (یونانیہ) ـــ الرومی والكنكر: آلو کی شکل کی سبزی کچالو۔

○ مُقْلِق: سازشی، موذی، مصیبت شخص۔

○ قَلْقَلَ ہ/ ہ: کو ہلانا، جھنجوڑنا، غیر یقینی بنانا، کو درہم برہم کرنا، میں خلل ڈالنا، کو پریشان کرنا، میں ہیجان پیدا کرنا، ہلچل ڈالنا، اضطراب پیدا کرنا، کو برانگیختہ کرنا۔۔ ہ: کو جوش میں لانا، بھڑکانا، بغاوت پر اکسانا۔ تَقَلْقَلَ: حالت اضطراب میں ہونا یا ہو جانا، ہل جانا، جھنجوڑا جانا، پریشان ہونا، تشویش میں مبتلا ہونا، بے چین ہونا، مضطرب ہونا، جوش میں آنا، بھڑکنا، بغاوت پر برانگیختہ ہونا۔ ـــ من: اپنی جگہ سے ہلنا، حرکت کرنا۔ ـــ: (صورت حال کا) غیر محفوظ ہونا، غیر یقینی ہونا۔ قَلْقَلَة جمع قَلَاقِل: عام بےچینی، گڑبڑ، جوش، اضطراب، ہنگامہ، ہلچل، افراتفری، شورش، بلوہ، کھلبلی، تصادم، صدمہ۔ قُلَيْقِلَة جمع قليقلات: ڈھیلا، مٹی کا ڈھیلا۔ مُقَلْقَل: حالت اضطراب میں، بڑھکا ہوا، ہلایا ہوا، غیر یقینی، درہم برہم، ہیجان زدہ، ہلچل میں آیا ہوا وغیرہ۔

قلم: ۱۔ قَلَمَ ۔ِ قَلْمًا و قَلَّمَ الشيئَ: کو کاٹنا۔ قَلَّمَ الشيءَ: کو تھوڑا تھوڑا کاٹنا۔ الظفر: ناخن تراشنا۔

القَلَمُ ج اَقْلامٌ و قِلامٌ: قلم، قلم کا اطلاق بن جانے کے بعد ہوتا ہے بننے سے پہلے اسے قصبہ یا یراعۃ کہتے ہیں۔ تیر جو جواریوں کے درمیان گھمایا جاتا ہے۔ القُلامَۃُ: تراشہ۔ قُلامَۃُ الظفر: ناخن کا تراشہ۔ الاِقْلِیمُ ج اَقالِیمُ: ملک، صوبہ، ربع مسکون کا ساتواں حصہ۔ الاِقْلِیمِیَّۃُ: اقلیمیہ علاقائیت، علاقائی خودمختاری، علاقہ پرستی، الاِقْلِیمِیُّ: مذہب اقلیمیہ کا پیرو۔ علاقائی خودمختاری کا مطالبہ کرنے والا، علاقہ پرست۔ التَقْلِیمُ: اور بقول بعض التَشْحِیلُ (ز): درخت کی قطع و برید کرنا، درخت چھانٹنا۔ المِقْلامُ: قینچی۔ المِقْلَمَۃُ ج مَقالِمُ: قلمدان مَقالِمُ الرُمحِ: نیزے کی گرہیں کہا جاتا ہے فُلانٌ مَقْلُومُ الظُفرِ و مُقَلَّمُ الظُفر یعنی فلاں ضعیف و ذلیل ہے۔

۲۔ المُقالِمُ ج مُقالِمَۃ: جس کی بیوی نہ ہو۔ کنوارا۔ المُقَلَّمَۃُ: بیوہ عورت، کہا جاتا ہے سارَتْ اَلْفٌ مُقَلَّمَۃٌ: یعنی ایک ہزار فوجیوں کی ہتھیار بند فوج روانہ ہوئی۔

۳۔ قَلْمَعَ راْسَہُ: کے سر پر مار کر اسے جدا کرنا۔ ــــ الشیئَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ القَلْمَعَۃُ (مص): کمینے لوگ۔

قلن: ا۔ قَلْنَسَ ہُ: کو ٹوپی پہنانا۔ ــــ الشیئَ: کو چھپانا۔ تَقَلْنَسَ: ٹوپی پہننا۔ القَلَنْسُوَۃُ و القُلَنْسِیَۃُ ج قَلانِسُ و قَلانِیسُ و قَلاسٌ و کَلاسِیُ اور تصغیر قُلَیْنِسَۃٌ و قُلَیْسِیَۃٌ: ٹوپی، (مختلف شکل کی) پادری جس ٹوپی کو استعمال کرتا ہے اس کو عوام قلوسۃ کہتے ہیں (لاتینیہ)۔

۲۔ قَلْنَسَ الرجلُ: سینہ پر ہاتھ رکھ کر فروتن کی طرح کھڑا ہونا۔

قلو: ا۔ قَلاَ ــ قَلًا و قَلاءً الرجلُ: سے بغض رکھنا۔ تَقَلّٰی الیہ: سے نفرت کرنا، بغض رکھنا۔ تَقالَی الرجُلانِ: ایک دوسرے سے بغض رکھنا، کہا جاتا ہے۔ بَیْنَھُمْ تَقالٍ: ان کے درمیان باہمی بغض ہے۔

۲۔ قَلاَ ــ قَلْوًا اللحمَ و غیرَہُ: گوشت وغیرہ کڑاہی میں بھوننا صفت فاعلی قَلاَّءٌ: اور صفت مفعولی مَقْلُوٌّ ــ تَقَلّٰی علیٰ فِراشِہ: بستر پر تلملانا۔ اِقْلَوْلٰی اِقْلِیلاءً: بے آرام ہونا، جگہ سے علیحدہ ہونا، سکڑنا، کوچ کرنا، پریشان ہونا۔

۳۔ قَلاَ ــ قَلْوًا الابلَ: اونٹوں کو ہانکنا۔ ــــ القُلَۃَ وبالقُلَۃِ: کو پھینکنا۔ القُلَۃُ ج قُلاتٌ و قِلُونٌ و قُلُونٌ، والمِقْلٰی والمِقْلاءُ: گلی ڈنڈا۔ القِلْوُ: ہلکا پھلکا، جوان ہلکا گدھا۔ القِلْوَۃُ: جانور جو اپنے سوار کو لے کر سب سے آگے بڑھ جائے۔

۴۔ اِقْلَوْلٰی اِقْلِیلاءً الطائرُ: پرندے کا اڑنے میں بلند ہونا۔ درخت کے اوپر کے حصہ پر اترنا۔ ــــ ہُ: کی پیٹھ پرسوار ہونا۔ ــــ فی الجبل: پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جھانکنا۔ القَلَوْلَی: بلند پرواز پرندہ۔

۵۔ القَلَۃُ: ہرن کے پھنسانے کے لئے ایک قسم کا پھندا۔ القِلْوُ: ترشہ، القلی۔

قلی: ا۔ قَلَی یَقْلِی قَلْیًا اللحمَ و غیرَہُ: گوشت وغیرہ بھوننا صفت قَلاّءٌ: بھوننے والا۔ المَقْلِیُّ: بھونا ہوا (گوشت)۔ القَلاّءُ: کڑاہی بنانے والا۔ کڑاہی میں گوشت بھوننے والا۔ المَقْلاۃُ: وہ جگہ جہاں گوشت کڑاہیاں تیار ہوتی ہیں۔ القَلِیَّۃُ ج قَلایا (ط): جو بھونا جائے، شوربا جو اونٹ کے گوشت سے تیار کیا جائے۔ المِقْلٰی و المِقْلاۃُ ج مَقالٍ: کڑاہی، فرائی پان۔ المَقْلاۃُ: وہ مقام جہاں کڑاہی بنائی جائے۔ المَقْلِیُّ: جو بھونا جائے۔

۲۔ قَلٰی یَقْلِی قَلْیًا فلانًا: کے سر پر مارنا۔ القُلّٰی واحد مونث قُلَّۃٌ: پہاڑوں کی چوٹیاں، مردوں کی کھوپڑیاں۔

۳۔ القِلْیُ و القِلْیُ: کڑوے پودے سے بنی ہوئی چیز۔ القِلِّیَۃُ: راہب کی کوٹھڑی (یونانیہ) القِلاّیَۃُ پادری کی رہائش گاہ (یونانیہ)

۴۔ قَلِیَ یَقْلٰی وقَلٰی یَقْلِی قِلًی و قَلاءً و مَقْلِیَۃً الرجلُ: سے بغض رکھنا، صفت فاعلی قالٍ صفت مفعولی مَقْلِیٌّ۔

قَلَّمَ اظافِرَ خَصْمِہِ: اپنے مخالف کو بے اثر کرنا، غیر مسلح کرنا، بِقَلَمِہِ: کے قلم سے لکھا ہوا، قلم الحِبْر: فاؤنٹین پین، قلم حِبرٍ جافٍ اور قلم حِبرٍ ناشف: بال پوائنٹ پین، قلم التحریر: ایڈیٹر کا کمرہ، خبر نویسی کا کمرہ۔ قلم الحرکۃ: محکمہ ٹریفک، قلم الحسابات: محکمہ پڑتال حسابات۔ قلم الادارۃ: دفتر انتظامیہ، صدر دفتر، قلم الرصاص: پنسل، قلم السیاحۃ: محکمہ سیاحت، قلم الاستعلامات: دفتر معلومات۔ قلم المطبوعات: پریس اور معلومات کا دفتر قلم القیودات: زندگی پر اثر انداز ہونے والے اعداد و شمار کا دفتر۔ دفتر اندراج۔ قلم الکُتّاب: دفتر محررین۔ قلم الکوبیۃ: کاپنگ پنسل، آرٹ پنسل، قلم المرور: ٹریفک کنٹرول بورڈ۔ مِقْلَمۃ جمع مِقْلمات: قلمدان۔

تقلیم: کاٹنا، تراشنا، کانٹ چھانٹ کرنا، کانٹ چھانٹ [illegible] تقلیم الاظافِر: ناخن تراشی۔ مُقَلَّم: کاٹا ہوا، تراشا ہوا، کانٹ چھانٹ کیا ہوا، دھاری دار بنایا ہوا۔ مُقَلَّمُ الظُفُرِ: بے بس، کمزور، بے اختیار۔ اَقْلَمَ: عادی ہونا، (آب و ہوا) راس آنا۔ تَأَقْلَمَ: خود کو (کسی آب و ہوا وغیرہ) کا عادی بنانا۔ اِقْلیم جمع اقالیم: علاقہ، صوبہ، انتظامی ضلع (مدیریۃ) الاقالیم: ملک، دیہات، مفصلات، دیہات کا علاقہ۔ اِقْلیمی: موسمی، موسم کا، علاقائی، مقامی، قلمرو کا، ممالک محروسہ کا۔ المیاہ الاقلیمیۃ: علاقائی سمندر، ساحلی سمندر، قَلَنْدار: گھومنے پھرنے والا درویش، قلندر، درویش۔ القِلْوِیات: ترشے، تیزاب کے ہم رشتہ ترشے۔ قَلاّیَۃ: تلنے کا برتن، کڑاہی، پکانے کا برتن (ہانڈی) تَقْلِیَۃ: لہسن، دھنیا اور پگھلے ہوئے مکھن سے بنائی چٹنی جو مسالہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔

قَلْوَز: (پگڑی) باندھنا۔

قَلْوَظَ: پیچوں سے جوڑنا، پیچ لگانا، پیچ کسنا۔ قَلاوُوظ: (قلاورجی کہا جاتا ہے): پیچ، جہاز کا پائلٹ۔ قَلاّیَۃ: راہب کا حجرہ۔ قبطیوں کے لاٹ پادری کی رہائش گاہ۔ قِلِّیَۃ: راہب کا حجرہ۔

قمّ: ا۔ قَمَّ ــ قَمًّا البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا صفت قامٌّ و قَمّامٌ۔ ــــ شارِبَہُ: مونچھ جڑ سے مونڈنا۔ ــــ ماعلی المائدۃ: دسترخوان پر رکھا ہوا کھانا کھانا۔ تَقَمَّمَ ما علی المائدۃ: دسترخوان پر پڑا اسباب کچھ کھا لینا۔ اِقْتَمَّ ما علی المائدۃ: دسترخوان پر رکھا کھانا سارا کھا لینا۔ القُمَّۃُ: کوڑا گھر، شیر کا لقمہ۔ القُمامَۃُ ج قُمامٌ: جھاڑو۔ القِمِیمُ: ستو۔ المِقَمُّ و المُقْتَمُّ: دسترخوان پر پڑا اسباب کچھ کھا جانے والا۔ المِقَمَّۃُ ج مَقامٌ: جھاڑو۔ و المِقَمَّۃ: پھٹے ہوئے کھر والے جانوروں کے ہونٹ۔

۲۔ قَمَّ ــ قَمًّا الشیئُ: خشک ہونا۔ قَمَّمَہُ: کو خشک کرنا۔ القمیم: خشک سبزی۔

۳۔ قَمَّمَ النجمُ: ستارے کا آسمان کے درمیان میں پہنچنا۔ تَقَمَّمَ ــ الشیئَ: کسی چیز پر چڑھنا۔ ــــ النخلۃَ: کھجور کے درخت پر چڑھنا اور سرے تک پہنچنا۔ ــــ الرجلُ قِرْنَہُ: ہمسر پر غالب آنا۔ القِمَّۃُ ج قِمَمٌ: ہر چیز کی چوٹی بدن، قد و قامت۔

۴۔ اِقْتَمَّ الشیئَ: سے نپٹنا، پر اعتماد کرنا، میں غلطی نہ کرنا۔

۵۔ القِمَّۃُ ج قِمَمٌ و القُمامَۃُ ج قُمامٌ: لوگوں کی جماعت۔

۶۔ قَمْقَمَ قَمْقَمَۃً ما علی المائدۃ: دسترخوان پر باقی ماندہ تلاش کر کے اکٹھا کرنا۔ رَجُلٌ قَمْقامٌ: کمینہ جو

گندی چیزوں کا دلدادہ ہو۔

۷۔تقمقمَ: پانی میں ڈوب جانا۔ الشیئَ: پر چڑھنا۔ الغبقد: پر۔ القمقامُ: بڑا معاملہ۔ و القُمقامُ و القُماقِمُ: کثیر تعداد، سمندر یا اس کا بڑا حصہ۔ (ح) چھوٹے بندر۔ ج قماقِمُ و قُماقِمَةٌ بہت بخشش والا سردار۔ القمقمان: عدد کثیر، سمندر یا اس کا بڑا حصہ۔ ج چھوٹے بندر۔

۸۔قمقم: بڑبڑانا، شاکی ہونا (عامیہ)۔

۹۔القُمقُمُ: حلق، منکا، پانی گرم کرنے والا تانبے کا برتن، عطر فروش کا برتن، گلاب پاش (فارسیہ)۔ القمقمة: گلاب پاش، لمبی گردن کی بوتل۔ القُمقُمُ: خشک یکی کھجور۔ القمقام و القُنقام و القماقم و القمقمان۔ واحد قمقامة (ح) جوں کی ایک قسم۔ القمامد: ماہ ستمبر کے آخری بارہ دن جن سے آنے والے سال کے ہر مہینہ کی ہوا کا پتہ لگایا جائے۔ عام لوگ اسے بواحیر کہتے ہیں۔

قما: القماء۔ قمأ المکانَ و بہ: میں داخل ہونا اور اقامت کرنا۔ و قمؤ۔ قمُوءً او قُمُوءً و قماءً و قماءة و قماءً ت الماشیۃ: جانور کا موٹا ہونا۔ ت الابل بالمکان: میں سرسبزی کی وجہ سے اقامت کرنا اور موٹا ہونا۔ قاماً مُقاماةً: سے موافقت کرنا، کہا جاتا ہے ماقاماۃ المکانُ: جگہ اسے موافق نہیں آئی۔ اقمأ الشیئ او المکانُ فلاناً: چیز یا جگہ کا کسی کو تعجب میں ڈالنا۔ ت الماشیۃ: جانور کا موٹا ہونا۔ تقمّأ فلان المکان: جگہ کا کسی کو موافق ہونا اور اس کا اس میں اقامت کرنا۔ القِمءُ: وہ جگہ جہاں اونٹ یا اونٹنی رہیں اور موٹے ہو جائیں اور اسی طرح عورت اور مرد بھی۔ القَماۃ: سرسبزی۔ القَماۃُ: سرسبزی۔ ج قِماءٌ و المَقماۃ و المَقمؤۃ: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچے۔

۲۔قمأ۔ قماۃً: کو اکھیڑنا۔ و قمؤ۔ قماءۃً و قُماۃً و قِماءۃً و قماءۃً: ذلیل و خوار ہونا صفت قمِیءٌ ج قماءٌ و قِماءٌ۔ اقمأ الرجلَ: کو ذلیل کرنا۔ القماۃ و القماءۃ: آرام سکون، دلجمعی۔ القمیءُ: ذلیل و خوار۔

۳۔تقمّأ الشیئ: کو تھوڑا تھوڑا جمع کرنا، عمدہ چیز لینا۔ اقتمأ الشیئ: کو جمع کرنا۔

قمح: القمحَ ۔ قُمُوحاً و قامحَ و انقمحَ البعیرُ: سیرابی کی وجہ سے پینے سے رک جانا صفت قامحٌ ج قِماحٌ و قُمّحٌ۔ قمحَ فلاناً: کو حق سے کم دے کر ہٹانا۔ اقمحَ الرجلُ: سر اٹھانا اور آنکھ بند کرنا۔ بانفه: بڑائی جتانا، مغرور ہونا۔ الغلُّ الاسیرَ: آہنی طوق کا تنگی کی وجہ قیدی کے سر کو نکلا ہوا چھوڑ دینا۔ تقمّحَ البعیرُ: سیرابی کی وجہ سے پینے سے باز رہنا اور سر اٹھانا۔ الشرابَ و من الشراب: کو ناپسند کرنا۔ شَهرا قُماحٍ و قِماحٍ: دو رومی مہینوں کے نام کانون اول، کانون ثانی۔ (دسمبر اور جنوری)

۲۔قمِح ۔ قَمحًا و تقمّحَ و اقتمحَ السویقَ: ستو پھانکنا۔ الشرابَ: کو ہتھیلی پر لینا اور چاٹنا۔ اقمحَ فلانٌ: شراب پینا۔ القُمحۃُ: پھنکی یا پانی سے منہ بھرا ہوا۔ (منہ بھر پھنکی، منہ بھر پانی) رجلٌ قَمُوحٌ للنبیذ: نبیذ بہت پینے والا۔ القَمیحۃُ: پھنکی (ستو یا دوا وغیرہ کی)۔

۳۔اقمحَ السنبلُ: خوشہ میں دانہ بیٹھنا، بننا۔ البُرُّ: گندم کا پکنا۔ القَمحُ گندم واحد قمحۃ: گندم کا دانہ۔ القمحیۃ اور اسے قلیۃ: بھی کہتے ہیں (ط)۔ ابلی ہوئی چھلکے سمیت گندم میں چینی گلاب کا عرق اور انار دانہ وصنوبر دانہ وغیرہ ملا کر تیار کیا ہوا حلوہ۔

۴۔القُمحۃُ و القُمّحانُ و القُمّحانُ (ن): زعفران۔ القَمحانۃُ: سر کے پچھلے حصہ میں اٹھی ہوئی جگہ اور گدی کے گڑھے کے درمیان کی جگہ۔

۵۔القَمحدُوۃُ ج قماحدُ: سر کے پچھلے حصہ میں اٹھی ہوئی جگہ۔

قمد: قمدَ ۔ قَمدًا و قُمودًا: انکار کرنا، باز رہنا، نیکی یا بدی میں لگا رہنا۔ قمِدَ ۔ قَمدًا: لمبی اور موٹی گردن والا ہونا صفت اقمدُ: مونث قمداءُ۔ اقمدَ الرجلُ: گردن بلند کرنا۔ القُمُدُ و القُمادُ: مضبوط، موٹا۔ القُمُدُّ: مضبوط، موٹا۔ و القُمُدَّۃُ و القُمُدّانیۃُ: لمبی گردن والی اور بقول بعض موٹی اور لمبی گردن والی۔

ت قمّح ہ: صرف ایک حصہ دینا، کو قسطوں میں ادائیگی کرنا۔ قمحی: گندم گوں۔ قمحۃ: جمع قمحات: گیہوں کا مغز، گرین = 1/4 قیراط۔ قمّاح: غلہ فروش، آٹے دال کی دکان والا۔

قمر: القمرَ ۔ قمرًا: جوا کھیلنا۔ الرجلَ: پر جوئے میں غالب آنا۔ الرجلَ مالہُ: کا مال چھین لینا۔ قامرَ مُقامرۃً و قِمارًا ہُ: باہم جوا کھیلنا۔ تقمّرَ الرجلَ: پر جوئے میں غالب آنا۔ تقامرَ القومُ: باہم جوا کھیلنا۔ القِمارُ (مص): جوا۔ القمیرُ ج اقمارٌ (جیسے نصیر ج انصار): جواری، کہا جاتا ہے ہو قمیرُک: وہ جوئے میں تمہارا ساتھی ہے۔

۲۔قمِرَ ۔ قمرًا الشیئُ: بہت سفید ہونا۔ الرجلُ: برف کی وجہ سے چندھیانا، چاندنی رات میں بے خواب ہونا۔ اقمرَ اللیلُ: چاندنی کا کھیت کرنا۔ الھلالُ: ہلال کا پورا چاند بننا۔ القومُ: چاندنی میں ہونا، چاند کے نکلنے کا انتظار کرنا۔ تقمّرَ: چاندنی رات میں شکار کے لئے نکلنا۔ الرجلَ: کے پاس چاندنی رات میں آنا۔ الطیرَ: پرندے کو شکار کے لئے رات میں آگ سے چندھا کر دینا۔ الطیرَ و الظباءَ: پرندوں یا ہرنیوں کا چاند کی روشنی میں شکار کرنا۔ اِقمارَّ اقمیرارًا: سفید ہونا، چاند کے رنگ کا ہونا۔ القمرُ ج اقمارٌ (فلک): چاند، تین رات سے لے کر آخر ماہ تک کو قمر کہتے ہیں اور اس سے پہلے ہلال، کہا جاتا ہے استرعیتُہ الشمسَ و القمرَ: یعنی میں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ القمرانِ (فلک): آفتاب و ماہتاب۔ الاقمار التوابع (فلک): اجرام فلکی جو سیاروں کے گرد گردش کرتے ہیں جیسے چاند زمین کے۔ مثلاً مریخ کے دو چاند اور مشتری اور زحل کے کئی چاند۔ اقمارُ العلمِ و شموسُہُ: علماء۔ القُمرۃُ: سبزی مائل سفید رنگ، تیسری رات کا چاند۔ لیلۃٌ قمرۃٌ: چاندنی رات۔ الحروفُ القمریۃُ: چودہ حروف ہیں جن کے ساتھ تلفظ میں لام پڑھا جاتا ہے جیسے القمرُ میں۔ الاقمرُ: سفید، سبزی مائل سفید رنگ والا۔ وجہٌ اقمرُ: چاند کے مشابہ چہرہ۔ القمراءُ: الاقمر کا مونث: چاند کی روشنی۔ القُمریُّ ج قُمرٌ و قماریُّ مونث قُمریۃٌ (ح): فاختہ کی مانند ایک خوش آواز پرندہ۔ القمریۃُ: چھوٹی ککڑی۔ القمریۃُ (ن): ایک بیل، جس کے پھلوں کے بیج ہلالی شکل کے ہوتے ہیں۔ تزین و آرائش کے لئے بوئی جاتی ہے، ایک پھول جس کی دو قسمیں ہیں ایک سدا بہار جو خوشبودار ہوتا ہے اور ایک موسمی جو بے بو ہوتا ہے۔ لیلۃٌ مُقمِرۃٌ و مُقمِرٌ: چاندنی رات، عربوں کی ایک مثال ہے انشطُ مِن ظبیٍ مُقمِرٍ: یعنی چاندنی رات کے ہرن سے زیادہ چست اور پھرتیلا کہتے ہیں کہ چاندنی میں ہرن کو نشاط حاصل ہوتا ہے اور وہ کھیلتا کودتا ہے اور کبھی دھوکے میں آجاتا ہے اور درندہ اسے شکار کر لیتا ہے اس وجہ سے دوسری مثال میں کہا گیا ہے اغَرُّ مِن ظبیٍ مُقمِرٍ یعنی چاندنی رات کے ہرن سے زیادہ دھوکے میں آنے والا۔

۳۔قمِرَ ۔ قمرًا الکلاءُ و الماءُ و غیرھما: گھاس پانی وغیرہ بہت ہونا۔ اقمرَ ت الابلُ: اونٹوں کا سیراب ہونا، بہت گھاس میں چرنا۔ الماءُ القمِرُ: بہت پانی۔ سحابٌ اقمرُ: پانی سے بھرا ہوا بادل۔

۴۔أقمَرَ الثمرُ: پھل کے پکنے میں تاخیر ہونا یہاں تک کہ سردی آ جائے، پکنے سے پہلے سردی آ جانا اور مٹھاس جاتا رہنا۔

۵۔قَمْرَةُ المرکبِ عند الملاّحین: یہ کامیرا سے معرب اطالوی لفظ ہے بمعنی کوٹھری۔المَقْمُوْرُ (مفع) برائی، ناپسندیدہ بات، اسی سے ایک مثال ہے۔ وَضَعْتُ یَدِیْ بَیْنَ اِحْدٰی مَقْمُوْرَتَیْنِ: میں نے برائیوں میں سے ایک برائی میں ہاتھ ڈالا۔

قمز اقمزَ ـِ قَمْزًا الشیئ کو اکٹھا کرنا، کو انگلیوں کے کناروں سے پکڑنا۔اقمزَ الرجلُ بیکار چیزوں کا ذخیرہ کرنا۔القُمْزُ: بے کار مال۔القُمْزَةُ ج قُمَزٌ کھجور کی ایک مٹھی، نباتات کا ایک شگوفہ جس میں دانہ ہو۔

۲۔قمَزَ ـُ قَمْزًا بمعنی قَمَرَ۔ (عوام کے حسب استعمال۔)

قمس اقَمَسَ ـِ قَمْسًا ہٗ فی الماء کو پانی میں غوطہ دینا۔ـــ ت الدلو فی الماء: ڈول کا پانی میں ڈوب جانا۔ـــ بہ فی البئر کو کنویں میں پھینکنا۔ـــ الولد فی البطن: بچے کا پیٹ میں حرکت کرنا۔قَمَسَ ـُ قَمْسًا و قُمُوْسًا فی الماء: پانی میں غوطہ لگانا۔ قَمَّسَ الرجلُ اونٹوں کو سیراب کرنا۔قَامَسَ قِمَاسًا و مُقَامَسَةً ہٗ: سے غوطہ لگانے میں مقابلہ کرنا۔انْقَمَسَ الکوکبُ: ستارے کا غروب ہونا۔ـــ ہٗ فی الماء: کو پانی میں غوطہ دینا۔ـــ الولدُ فی البطن: بچے کا پیٹ میں حرکت کرنا۔تقامَسُوْا فی الماء: باہم غوطہ زنی کرنا۔انْقَمَسَ فی الماء: پانی میں غوطہ لگانا۔ـــ فی الرکیة: کنویں میں کود پڑنا۔ـــ الکوکبُ: ستارہ کا غروب ہونا۔القَامُوْسُ ج قَوَامِیْسُ: سمندر، سمندر کا بڑا اور گہرا حصہ، علامہ مجد الدین فیروزآبادی کی علم لغت میں ایک مشہور کتاب۔ موجودہ زمانہ میں ہر لغت کی کتاب کو قاموس کہتے ہیں۔القِمَاسُ: کنویں میں پانی کی زیادتی۔القَمَّاسُ: غوطہ خور۔القَمُوْسُ: کنواں جس میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈول ڈوب جائے۔القَمِیْسُ: سمندر۔القِمِّیْسُ ج قَمَامِیْسُ: سمندر۔القَوْمَسُ ج قَوَامِسُ: سمندر کی گہرائیاں، سمندر کے پانی کا بڑا حصہ۔القَوَامِسُ: مصیبتیں۔

۲۔قَامَسَ قِمَاسًا و مُقَامَسَةً ہٗ: سے مناظرہ کرنا، مباحثہ کرنا، کہا جاتا ہے ھُوَ یُقَامِسُ حُوْتًا: وہ مچھلی سے غوطہ لگانے میں مقابلہ کرتا ہے یعنی اپنے سے زیادہ علم والے سے مباحثہ کرنا۔

۳۔القُمَّسُ ج قَمَامِسُ و قَمَامِسَةُ: شریف انسان۔ القَوْمَسُ ج قَوَامِسُ: امیر۔

قمر قَمَرَ ـِ قَمْرًا جوا کھیلنا۔ـــ ہٗ کو جوئے میں ہرانا، قُمِرَ: جوئے میں ہار جانا۔قَمِرَ ـَ قَمَرًا: برف چندھا ہونا یا ہو جانا۔قَمَّرَ ہ (روٹی، ڈبل روٹی وغیرہ) سینکنا قَامَرَہٗ: کے ساتھ جوا کھیلنا۔ـــ ب: کو شرط یا داؤ کے طور پر رکھنا، کو خطرے میں ڈالنا، کا خطرہ مول لینا۔ـــ علی: پر بازی لگانا، پرسٹا کرنا۔قامر علی الجوادِ الخاسر: غلط گھوڑے پر بازی لگانا۔اَقْمَرَ: (رات کا) چاندنی ہونا۔حجر القمر: جپسم کی ایک قسم۔قَمَرَة جمع قَمَرات: ہلال، نیا چاند، چاندنی، روشندان۔قَمَر: برف کوری۔ـــ جمع اقمار: چاند۔نقلی چاند (مصنوعی سیارہ)۔قَمَرِیَة جمع قَمَرِیات: روشندان، چھوٹی کھڑکی۔اَقْمَر مونث قَمْرَاء: چاندنی (رات) روشن، چاند جیسا سفید، سفیدی مائل۔مَقْمَر و مَقْمَرَة جمع مَقَامِر: جوا خانہ۔قِمار: جوا، بازی، شرط لگانا۔ آلة لعب القِمار: سکہ ڈال کر جوئے وغیرہ کا ٹکٹ نکالنے والی مشین۔مُقَامَرَة: جوا کھیلنا۔مُقَمِّر و مُقَمِّر کھربائی: ٹوسٹر، توس سینکنے والی مشین۔مُقَمَّر: ڈبل روٹی کے ٹکڑے جو آگ پر سینکے ہوئے ہوں، روٹی جو آگ پر سینکی گئی ہو۔مُقامِر: جوئے باز، مُقْمِر: چاندنی (رات)۔قَمَرة و قَمْرَة جمع قَمَرات: برتھ (Berth)، جہاز میں دیوار گیر بستر یا نشست کیبن (Cabin)، خاص کمرہ (State Room)۔قُمْرُق جمع قَمَارِق: محصول درآمد (و برآمد)۔

قمش قَمَشَ ـُ قَمْشًا و قَمَّشَ القُماشَ: کو ادھر ادھر سے جمع کرنا۔تَقَمَّشَ: جو کچھ ملے اسے کھا جانا اگرچہ معمولی ہو۔اِقْتَمَشَ القُماشَ: کو ادھر ادھر سے کھانا۔القَمْشُ (مص): نکمی چیز۔القُمَاشُ جمع اَقْمِشَة: روئے زمین پر پڑے ہوئے ٹکڑے، کپڑا، قُماش کل شئی: ہر چیز کے ٹکڑے۔ـــ قُماشُ النَّاسِ: رذیل لوگ۔قُماشُ البَیْتِ: گھر کا سامان، فرنیچر۔قُماشُ الثَّوْب (ت): کپڑا کہتے ہیں ھذا الثَّوْبُ جَیِّدُ القُماشِ: یہ کپڑا عمدہ بافت (بناوٹ) والا ہے۔جیسے کہا جاتا ہے ثَوْبٌ مُقَمَّشٌ: مضبوط بنا ہوا کپڑا۔القَمَّاشُ: کپڑا فروش، سامان بیچنے والا۔

قَمْشَة: چمڑے کی پٹی، فیتہ، تسمہ، کوڑا، چابک، گانے کی ادھوڑی۔قِماش ج اَقْمِشَة: کپڑا۔

قمص اقَمَصَ ـُ قُماصًا و قِماصًا و قَمْصًا الفرسُ وغیرہٗ: گھوڑے کا اگلی دونوں ٹانگوں کو اکٹھا ہی اٹھانا اور اکٹھا ہی رکھنا۔البعیرُ: اونٹ کا کودنا اور بھاگنا۔قَمَصَ منہ: سے نفرت کرنا، اعراض کرنا۔ـــ ت الناقةُ بالردیف: کو اونٹنی کا اچھلتے ہوئے لیجانا۔ـــ البحرُ بالسفینة: اچھلتے سمندر کا کشتی کو اس طرح متحرک کرنا جیسے کشتی اونٹ کی طرح دوڑ رہی ہو۔قَمَّصَ البحرُ بالسفینة: بمعنی بالا۔القِمَاصُ (مص): قلق۔القَمُوْصُ: وہ جانور جو اپنے سوار کو لے کر اچھلے (ح): شریر، بے آرام جس کو قرار نہ ہو۔کہا جاتا ہے فُلَانٌ قَمُوْصُ الحَنْجَرَةِ: فلاں بڑا جھوٹا ہے۔القَمِیْصُ: وہ جانور جو اپنے سوار کو لے کر اچھلے۔

۲۔قَمَّصَ ہٗ: کو قمیص پہنانا۔الثوب: سے کرتا قطع کرنا۔تَقَمَّصَ: کرتا پہننا اور استعارہ کی بناء پر کہا جاتا ہے۔تَقَمَّصَ الوِلَایَةَ والاَمَارَةَ و تَقَمَّصَ لِبَاسَ العِزِّ: اس نے ولایت امارت اور عزت کی قمیص پہن لی یعنی نظام سنبھال لیا۔ـــ ت الروحُ: ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا۔بعض کے نزدیک جسموں کو روحوں کی قمیص بنانا کہ روحیں ایک قمیص سے دوسری قمیص میں منتقل ہو جاتی ہیں۔القَمِیْصُ ج اَقْمِصَةٌ و قُمُصٌ و قُمْصَانٌ: کرتا۔ (مذکر مونث) نوزائیدہ بچے کے اوپر کی جھلی، دل کا غلاف کہا جاتا ہے هَتَكَ الخَوْفُ قَمِیْصَ قَلْبِهٖ: خوف نے اس کے دل کے غلاف کو پھاڑ دیا۔

۳۔القَمَصُ واحدہ قَمَصَةٌ (ح): انڈے سے نکلے ہوئے ٹڈی کے تازہ بچے۔ (ح) مکھیاں یا مچھر جو پانی کے اوپر اڑتے ہیں۔

قمص قَمَصَ ـُ قَمْصًا و قِماصًا و قُماصًا: سرپٹ دوڑنا، اچھلنا، کودنا، پھاندنا، پھلانگنا، چھلانگ لگانا، لات مارنا۔قَمَّصَ: بمعنی بالا۔خَمَّصَ: سرپٹ دوڑ۔قَمَّصَ ہ: کو قمیص پہنانا۔تقمَّصَ: قمیص پہننا۔ـــ ہ: میں لپٹنا، کے لبادہ میں چھپنا۔ـــ: (روح کا) دوسرے جسم میں جانا، تناسخ ہونا، دوسرے جسم میں مادی صورت میں آنا۔قَمِیص جمع قُمُص و اَقْمِصَة و قُمْصان: قمیص، فراک، گون، جبہ، عبا، پوشش، ڈھکنا، سرپوش، چادر شال وغیرہ، لفافہ، جیکٹ، پادریوں وغیرہ کا سفید جبہ، تجسیم، (مسیحیت میں) قمیص افرنجی: دن کی قمیص، اوپر کی قمیص۔قمیص النوم: رات کا جبہ، عبا۔تقمیص و تَقَمُّص: روح کا دوسرے جسم میں جانا، تناسخ۔قُمَّص جمع قَمامِصَة: لاٹ پادری۔

قمط اقَمَطَ ـُ قَمْطًا و قِمَاطًا ہٗ: کے ہاتھ پاؤں

باندھ دینا جیسے گہوارہ میں چھوٹے بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ القِماط ج قُمُط: رسی جس سے ہاتھ پاؤں باندھیں، چوڑا کپڑا جس سے گہوارہ میں بچے کو لپیٹ دیں۔ — و القِمط: رسی جس سے بکری کی ٹانگوں کو ذبح کرتے وقت باندھیں۔ —— القَمّاطُ: بچوں کو گہوارہ میں باندھنے کے لئے پٹی بنانے والا۔

٢۔ قَمَطَ ـِ قَمْطًا و قَمَّطَ طعمَ الشیئ: کو چکھنا۔ الشیئَ: کو لینا۔ القَمّاطُ: چور۔ القُمّاطُ: (بہت سے) چور۔

٣۔ قَمَطَ ـُـِ قَمْطًا و قَمَّطَ الابلَ: اونٹوں کو قطار میں کرنا۔

٤۔ عامٌ قَمِیطٌ: پورا سال کہا جاتا ہے۔ اَقَمتُ عِندَهُ حَولاً قَمِیطًا او شَهرًا قَمِیطًا: میں اس کے پاس ایک مکمل سال یا ایک کامل مہینہ ٹھہرا۔

٥۔ قَمطَرَ قَمطَرَةً الشیئُ: جمع ہونا۔ — الشیئَ: کو جمع کرنا۔ —— القِربَةَ: مشک کو بندھن سے باندھ دینا، مشک کو بھرنا۔ اِقْمَطَرَّ: بکڑنا۔ — للشر: برائی پر آمادہ ہونا۔ علیه الشیئُ: پر کی بھیڑ ہونا۔ القِمَطرُ والقِمَطْرُ ج قَماطِرُ: بستہ، مجرموں کے پاؤں پھنسانے کی لکڑی، ٹھگنا قد موٹا مرد، مذکر و مونث اور کبھی اِمرَاۃٌ قِمطَرَۃٌ: بھی کہتے ہیں۔ القِمَطرَی: پستہ قد موٹا مرد، اکٹھی چال۔

٦۔ قَمطَرَ قَمطَرَةً العدوُّ: دشمن کا بھاگنا۔ اِقْمَطَرَّ: منتشر ہونا۔

٧۔ اِقْمَطَرَّ الیومُ: دن کا سخت ہونا۔ القُماطِرُ والقَمطَرِیرُ: سخت دن یا سخت برائی۔

◯ قَمطَ ـُـِ قُمطًا ہ: کو بیڑیاں ڈالنا، کو ہتھکڑی لگانا۔ — ہ (زخم) پر پٹی باندھنا۔ قَمَطٌ: بمعنی بالا۔

قمع: ١۔ قَمَعَ ـَ قَمْعًا ہُ: کو اس کے ارادہ سے ہٹا دینا۔ چھڑی سے مارنا، کو مغلوب و ذلیل و خوار کرنا، سر کی چوٹی پر مارنا۔ — البردُ النباتَ: سردی کا نباتات کو جلا دینا۔ قَمِعَ ـَ قَمَعًا الظبیةُ: ہرن کی ناک میں مکھی داخل ہونا اور اس کی وجہ سے اس کا سر ہلانا۔ اَقْمَعَ ہُ: کو ذلیل و خوار کرنا، رد کرنا، آپ کہتے ہیں۔ اَقْمَعتُهُ: یعنی فلاں میرے پاس آیا تو میں نے اسے ہٹا دیا۔ تَقَمَّعَ: ذلیل ہونا۔ —— الذبابَ: مکھی اڑانا، تم کہو گے۔ تَرَکتُهُ یَتَقَمَّعُ: میں نے اسے بیکاری اور فراغت میں مکھی اڑاتے ہوا چھوڑا۔ اِنْقَمَعَ: ذلیل و خوار ہونا۔ القَمَعَۃُ ج مَقامِعُ (ح): مکھی جو سخت گرمی میں اونٹوں اور ہرنوں کو لگ جاتی ہے۔

المِقمَعَۃُ ج مَقامِعُ: چھڑی، لکڑی یا لوہا جس سے انسان کو مارا جائے۔ المَقمُوعُ (مفع) مغلوب۔

٢۔ قَمَعَ ـَ قَمْعًا القِربةَ: باہر کی طرف مشک کے منہ کو موڑنا۔ — فی الشیئ میں داخل ہونا۔ — ت المراۃ بنانها بالحناء: عورت کا پوروں کو مہندی سے رنگنا۔ — ما فی السقاء: مشک کے پانی کو ڈگڈگا کے پینا۔ الشرابُ: آسانی سے حلق سے اترنا۔ سمعَهُ لفلان: کی بات پر کان لگانا —— الوطب: کے سرے پر قیف لگانا۔ قَمِعَ ـَ قَمَعًا فلانٌ الدواءَ: دوا پھانکنا۔ قَمَّعَ البسرةَ ونحوَها: کھجور وغیرہ کی پینڈی کو دور کرنا۔ —ت السرۃُ و نحوُها: کھجور وغیرہ کی پینڈی کا دور ہونا۔ اِقْتَمَعَ مافی الاناء: یعنی برتن میں جو کچھ تھا سب پی گیا۔ القَمْعُ والقِمْعُ والقِمَعُ ج اَقْماعٌ قِیَفٌ — (ز): کھجور وغیرہ کے نیچے کی پینڈی۔ اور تشبیہ کی بناء پر انگشتانہ کو بھی قمع کہتے ہیں۔ القَمَعُ (ع ا): حلق کا کنارہ سانس کی نال کا کنارہ۔ — (ع ا): زخرہ کی ابھری ہوئی ہڈی۔ القُمَعَۃُ ج قُمَعٌ: توشہ دان وغیرہ کا سر بند۔ القَمَعَۃُ ج قَمَعٌ: حلق کا کنارا۔ قَمَعَۃُ الذَّنَبِ: دم کا کنارا۔ القَمِیعَۃُ ج قَمائِعُ: دم کا سرا۔ القِمْعِیَّۃُ (ن): ایک پھولدار پودا جس کی ایک قسم زہریلی ہے سے ایک دوا تیار کی جاتی ہے جو پیشاب آور اور مسکن ہے اس کا استعمال خطرناک ہے اس سے دل کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔

٣۔ قَمَعَ ـَ قَمْعًا الکتبَ و نحو ھا: عمدہ عمدہ کتابیں وغیرہ چھانٹ لینا تَقَمَّعَ و اِقْتَمَعَ الشیئَ: کو چننا۔ القَمَعَۃُ والقُمْعَۃُ من المال: چنا ہوا عمدہ مال القُمْعَۃُ ج قُمَعٌ: اِقْتَمَعَ سے اسم، پسندیدہ مال۔ — من المال: چنا ہوا مال۔ قَمْعَۃُ الشیئ ج قَمَعٌ: عمدہ چیز۔ المَقمُوعُ من المال: چنا ہوا مال۔

٤۔ قَمِعَ ـَ قَمَعًا عینُهُ: گوشہ چشم میں ورم والی ہونا صفت قَمِعَۃٌ القَمَعُ (طب): آنکھ کے گوشوں میں ورم یا سرخی یا خرابی۔ طَرفٌ قَمِعٌ: پھنسیوں والی آنکھ۔ القَمَعَۃُ ج قَمَعٌ (طب): آنکھ کا زخم۔ الاَقْمَعُ مونث قَمْعاءُ ج قُمْعٌ والقُمُوعُ: وہ شخص جس کی آنکھ کے گوشے میں ورم یا خرابی یا سرخی ہو۔

٥۔ قَمِعَ ـَ قَمَعًا الفرسُ: ایک موٹے گھٹنے والا ہونا۔ — عرقوبُ الفرسِ: کی ایڑی کے سرے کا موٹا ہونا۔ القَمَعُ: گھوڑے کے گھٹنے میں یا ایڑھی میں موٹا پا۔ القَمِعُ مِنَ الخیلِ گھوڑا جس کے ایک گھٹنے میں موٹا پا ہو۔ سَنامٌ قَمِعٌ: بڑا کوہان۔ القَمَعَۃُ ج قَمَعٌ: اونٹ کے کوہان کی چوٹی۔ الاَقْمَعُ من الخیل مونث قَمْعاءُ ج قُمْعٌ: گھوڑا جس کے ایک گھٹنے میں موٹا پا ہو۔ القَمِیعَۃُ من الدواب جمع قَمائِعُ: دونوں کانوں کے درمیان ابھرا ہوا حصہ والا جانور۔

٦۔ تَقَمَّعَ تنہا بیٹھنا۔ اِنْقَمَعَ الرجلُ تنہا بیٹھنا۔

٧۔ تَقَمَّعَ متحیر ہونا، مدہوش ہونا۔

٨۔ قَمعَلَ قَمعَلَۃً النبتُ: نباتات کا غلاف نکلنا یا شگوفہ نکلنا۔ — الرجلُ: سردار قوم ہونا۔ القِمعالُ: سردار قوم۔ چرواہوں کا سردار۔ القُمعُلُ ج قَماعِلُ وقَماعِیلُ: تنگ منہ کی ہانڈی۔ — و القُمعُولُ ج قَماعِلُ و قَماعِیلُ: بڑا پیالہ۔ القُعمُولَۃُ ج قَماعِیلُ (ز): نباتات کا غلاف یا پھول کی کلی، کونپل۔ سر کے اندر گھسا۔

◯ قمع ہ/ ہ: مغلوب کرنا، زیر کرنا، دبا دینا، کچل دینا، ختم کرنا، قابو میں رکھنا، روکنا، باز رکھنا، محکوم بنانا، زیر نگیں کرنا۔ قَمع و قِمع و قمع جمع اقماع: قیف، دودکش، جمع قموع: پھل کی ڈنڈی۔ قمع الخیّاط: انگشتانہ۔ قمع السیکارۃ: سگار کا بچہ ہوا ٹکڑا۔
Cigarbutt

◯ قُمقَمَ و تَقَمقَمَ: شکایت کرنا، بڑبڑانا۔ قُمقم و قُمقُمَۃ جمع قَماقِم: لمبی گردن والی پھولی ہوئی بوتل۔

قمل: قَمِلَ ـَ قَمَلاً القومُ: کا زیادہ تعداد ہونا، سرسبز شادابی والا ہونا۔ — فلانٌ: لاغری کے بعد موٹا ہونا۔ — بطنُهُ: کی توند نکلنا۔ — راسُهُ: سر میں جوں والا ہونا یا بہت جوئیں والا ہونا صفت قَمِلٌ —— و اَقمَلَ المرعی: چراگاہ کا اگنا اور سیاہ ہونا۔ تَقَمَّلَ الرجلُ: میں کچھ موٹائی شروع ہونا۔ القَمْلَۃُ ج قَمْلٌ (ح): جوں کہا جاتا ہے۔ دَبَّ قَمْلُهُ: یعنی وہ موٹا ہوا۔ —— قَمْلُ قُرَیْشٍ: دانہ صنوبر۔ القَمّالُ (ح): جوں۔ القُمَّلُ: واحد قُمَّلَۃٌ (ح): چیچڑی (ح): چھوٹی چیونٹی۔ المُقمِلُ: فقیری کے بعد امیر ہونے والا۔

◯ قَمِلَ ـَ قَمَلاً: جوؤں سے بھرا ہوا ہونا، تقمّل: جوؤں سے بھرا ہوا ہونا۔ قَمْل واحد قملة: جوویں قَمِل: جوؤں سے بھرا ہوا۔ مُقَمَّل: جوؤں سے بھرا ہوا۔

قمن: ١۔ تَقَمَّنَ الامرَ: کا قصد کرنا، کو کرنے کی غرض و غایت ہونا کا ارادہ کرنا۔ — الشیئ: کو پکڑنے کے قریب ہونا۔ القَمِنُ: قریب، لائق، مناسب، یہ لفظ واحد، تثنیہ جمع مذکر اور مونث سب کیلئے ہے۔ کہا جاتا ہے۔ هٰذا المَنزِلُ لکَ مَوطِنٌ قَمِنٌ: یعنی یہ مکان اس

لائق ہے کہ تم اس میں رہو۔ وجِئْتُ بِالحَدِيثِ عَلٰی قَمِنِهِ: یعنی میں نے اس کی روش پر بیان کیا۔ القَمِنُ: لائق، (قَمِنٌ: کے ساتھ باء یا لام یا من: کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے هُوَ قَمِنٌ بِكَذَا اَوْ مِنْ كَذَا اَوْ لِكَذَا: وہ اس کے لائق ہے) تیز، قریب۔ القَمِينُ ج قُمَنَاءُ و قَمِينُونَ مونث قَمِينَةٌ ج قَمِينَاتٌ و قَمَائِنُ: تیز، لائق، سزاوار، قَمِينٌ: کے شروع میں بھی باء لام یا من استعمال کیا جاتا ہے جیسے هُوَ قَمِينٌ بِكَذَا و لِكَذَا یا مِنْ كَذَا وہ اس کے لائق ہے اور کہا جاتا ہے۔ أَقْمِنْ بِهذا الامر: یہ کام بہت مناسب ہے هذَا الاَمْرُ مَقْمَنَةٌ لِذَالِكَ: یعنی یہ کام اس کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

۲۔ رائِحَةٌ قَمِنَةٌ: بدبودار۔ القَمِينُ ج قُمَنَاءُ و قَمِينُونَ مونث قَمِينَةٌ ج قَمِينَاتٌ و قَمَائِنُ: حمام کی بھٹی۔ المُقْمَئِنُّ: سکڑا ہوا۔

قمه: ۱۔ قَمَهَ ــَ قُمُوهًا البعيرُ: حوض سے سر اٹھا لینا اور پانی نہ پینا۔ ــ الشيئُ فی الماء: کبھی پانی میں ڈوبنا کبھی ابھرنا۔ القَامِهُ ج قُمَّهٌ: (فا)۔ القَمَهُ: کھانے کی کم خواہش۔

۲۔ تَقَمَّهَ فی الارض: آوارہ پھرنا کہا جاتا ہے خَرَجَ فُلَانٌ يَتَقَمَّهُ: فلاں اس حال میں نکلا کہ اسے کوئی علم نہیں تھا کہ کہاں جائے۔

۳۔ اِقْمَهَدَّ: جلدی کرنا، مرنا۔ ــ الرجلُ او البعيرُ: سر اٹھانا۔ ــ بالمکان: میں ہمیشہ اقامت کرنا۔ القَمْهَدُ: کمینہ، بد اصل، بدذات مرد، بدشکل آدمی۔

قمی: قَامَى مُقَامَاةً (یائی) هُ: کی موافقت کرنا، کہا جاتا ہے۔ مَايُقَامِينِي هذَا الشَّيئُ: یعنی یہ چیز مجھے موافق نہیں۔

○ تَقَمَّنَ ہ: کچھ کرنے کا ارادہ کرنا، کچھ کرنے کا خیال ہونا۔ قَمِنٌ ب: کے لائق، کے قابل، کے شایاں، کا سزاوار، کا مستحق۔ قَمِين ب: کے لائق، قابل، شایان، کا سزاوار، مستحق کے لئے کافی، موزوں، مناسب، کے مطابق، موافق، کو گزرنے والا، کا اہل، کرنے جوگ۔ مَقْمَنٌ ل: کے لئے کافی، موزوں، مناسب قَمِينَة و قَمِين جمع قمينات: پژاوہ، اینٹوں کا بھٹہ، بھٹی۔

قن: ۱۔ قَنَّ ــُ قَنًّا فی الجبل: پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا۔ اِقْتَنَّ اِقْتِنَانًا و اِقْتَنَنَ اِقْتِنَانًا: کھڑا ہونا۔ اِسْتَقَنَّ بالامر: کام اپنے ذمہ لینا۔ القُنُّ: چھوٹی پہاڑی۔ القُنَّةُ ج قُنَنٌ و قِنَانٌ و قُنُونٌ و قُنَّاتٌ: چھوٹی پہاڑی، پہاڑ کی چوٹی۔ قُنَّةُ كُلِّ شَيئٍ: ہر چیز کا بالائی حصہ۔

۲۔ قَنَّ ــُ قَنًّا: لاٹھی سے مارنا۔ اِقْتَنَّ: غلام بنانا۔ القِنُّ: غلام (خود مملوک اور اس کے ماں باپ) اور یہ لفظ مذکر مونث، مفرد جمع سب کے لئے ہے اور کبھی جمع اَقْنَانٌ و اَقِنَّةٌ آتی ہے۔ القَنَانَةُ و القُنُونَةُ: غلامی، زرعی غلامی۔

۳۔ قَنَّ ــُ قَنًّا: نگاہ ڈال کر ڈھونڈنا، خبروں کو تلاش کرنا۔

۴۔ اِقْتَنَّ: خاموش ہونا۔

۵۔ اِسْتَقَنَّ: بکریوں میں رہ کر انہیں کے دودھ پر گزارا کرنا

۶۔ القُنُّ: کرتے کی آستین۔ قُنُّ الدَّجَاجِ: مرغی کی جائے پناہ (عامیہ سریانیہ)۔ القِنَّةُ ج قِنَنٌ: رسی کی لڑیوں میں ایک لڑی، ایک دوا کا نام۔ القَنُّ: طریقہ۔ القُنَانُ: کرتے کی آستین۔ القِنِّينَةُ ج قَنَانِيُّ و قَنَان: شیشہ کی بوتل۔ القَانُونُ ج قَوَانِينُ: اصل، ہر چیز کا پیمانہ، (مو): ایک قسم کا باجہ۔ شرائع اور نظاموں کا مجموعہ، اجتماعی نظام، قانون کی بہت سی اقسام ہیں مثلاً قانون اساسی یا دستوری، قانون تجارت وغیرہ۔ الحَقُّ القَانُونِيُّ: عیسائیوں کی شریعت کا مجموعہ۔ ــ (ع ج) الجبرا کا قاعدہ، اسے دستور یا قاعدہ بھی کہتے ہیں۔

قنأ: ۱۔ قَنَأَ ــَ قُنُوءًا ت اللحيةُ من الخضاب: داڑھی کا خضاب سے سیاہ ہونا۔ ــ الشيئُ: گہرا سرخ رنگ والا ہونا۔ قَنَأَ اللبنَ: دودھ میں پانی ملانا۔ ــ لحيتَهُ: داڑھی کو خضاب سے سیاہ کرنا۔ قَنِئَ ــَ قُنُوءًا الاديمُ: چمڑے کا خراب ہونا۔ قَنَّأَ تَقْنِئَةً و تَقْنِيئًا لحيتَهُ: داڑھی کو خضاب سے سیاہ کرنا۔ اَقْنَأَ الاديمَ: چمڑے کو خراب کرنا۔ اَحْمَرُ قَانِئٌ: بہت گہرا سرخ۔ المَقْنَأَةُ و المَقْنُؤَةُ: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پڑے۔

۲۔ قَنَأَ ــَ قَنْأً الرجلَ: کو قتل کرنا یا اسے کسی دوسرے کو قتل کرنے پر برانگیختہ کرنا۔ قَنِئَ ــَ قُنُوءًا: مرنا۔ اَقْنَأَ الرجلَ: کو قتل کرنا۔ ــ الشيئُ فلانًا: کیلئے ممکن ہونا اور کے قریب ہونا۔

۳۔ القِنْؤُلُ: ہاتھی کی گردن، پست قد عورت۔

○ قُنّ جمع قِنَان: مرغیوں کا ٹوکرا، ٹاپا، ڈربہ، قِنّ جمع اَقْنَان و اَقِنَّة: غلام، زرعی غلام، قِنَّة: بارزد، بریجا (مخصوص بو والی ایک قسم کی لاکھ جو بعض ایشیائی پودوں سے حاصل کی جاتی ہے اور دوائیوں نیز دھونی دینے میں استعمال ہوتی ہے)۔ قُنَّة جمع قُنَنَات و قُنَن و قِنَان و قُنُون: پہاڑ کی چوٹی، قُنُونَة: غلامی، زرعی غلامی، قِنِّينَة جمع قَنَانِيّ: بوتل، شیشے کی بوتل، فلاسک، ڈاٹ والی چھوٹی سی بوتل، چھاگل، شیشی۔ قَنَّنَ: قانون بنانا، قانون سازی کرنا۔ ــ ہ: کچھ معین کرنا، تعین کرنا، قَانُون جمع قوانين: قانون شریعت، دینی فتوی، مسلمہ اصول، بنیادی قاعدہ، ضابطہ، فرمان، ہدایت، حکم، اصول اخلاق، تحریری قانون، مجموعہ قوانین، ضابطہ، قوانین، ٹیکس، محصول، خراج، زیتون اور کھجوروں پر ٹیکس (تونس میں) ایک آلۂ موسیقی، القانون الاساسی: بنیادی دستوری مجموعۂ قوانین۔ تحریری قانون۔ قانون التأسيس: دستور، القانون الجنائی: تعزیری قانون، قانون فوجداری۔ قانون الاحوال الشخصية: ذاتی یا نجی امور کے متعلق قانون۔ القانون الدستوری: آئینی قانون القانون الدُّوَلی: بین الاقوامی قانون۔ قانون المُرافعات: طریق کار کا قانون، قانونُ اصولِ المحاكمات الحقوقية بمعنی بالا۔ قانونُ السِلكِ الإداري: انتظامی قانون۔ قانونٌ كِيماوِي: کیمیائی فارمولا۔ القانون المدنی: شہری قانون، قانون دیوانی۔ قانونی: قانونی، قانون کے مطابق، جائز، قانون کی نظر میں، ماہر قانون صيدلي قانوني: تصدیق شدہ اور لائسنس یافتہ دواساز۔ غير قانونی: غیر قانونی، خلاف قانون، ناجائز۔ قانُونِيَة: قانون کی مطابقت۔ تقنين: دستور سازی، قانون کی تدوین، قانونی قاعدہ، راشن بندی۔ مُقَنِّن: قانون ساز، قانون سازانہ، مُقَنَّن: معین شدہ، تعین کردہ۔

○ قنال: کینال (نہر) قنال السويس: نہر سویز۔

قنب: ۱۔ قَنَبَ ــِ قُنُوبًا فی الشيئ: میں داخل ہونا۔ ــ ت الشمسُ: آفتاب کا غروب ہونا۔ قَنَّبَ الزرعُ: خوشہ کے پتے ظاہر ہونا۔ ــ الزهرُ: پھول کا کلی سے نکلنا۔ ــ الاسدُ بمخلبه: شیر کا چنگل کو سمیٹ لینا۔ اَقْنَبَ: قرض خواہ سے یا طاقتور سے چھپنا۔ تَقَنَّبَ الرجلُ فی بيته: میں داخل ہونا۔ القُنْبُ: بڑا بادبان، شیر کا چنگل۔ ــ من كف الاسد: شیر کی ہتھیلی کا وہ حصہ جس میں وہ اپنے چنگل داخل کر لیتا ہے۔ قُنْبُ الزَّهْرِ: پھول کا غلاف ج قُنُوبٌ۔ القِنَابُ: شیر کا پنجہ۔ و القُنَّابُ واحدُه قُنَّابَةٌ و قُنَابَةٌ و قُنَّبَةٌ: پتے جن میں خوشہ ہوتا ہے۔ و القُنَابَةُ: پتے جن میں خوشہ ہوتا ہے۔ القِنَّبُ و القُنَّبُ (ن): سن جس سے ستلی بناتے ہیں اور اس سے ریشے تار دھاگہ وغیرہ بناتے ہیں۔ القَنِيبُ: گھنا بادل۔ المِقْنَبُ: شکاری کا تھیلا۔ شیر کی ہتھیلی ــ و المِقْنَابُ: شیر کا چنگل، کہا جاتا ہے حَلَبَ الاَسَدُ فی مِقْنَبِه: شیر کا

چنگل اس کی ہتھیلی میں ہے۔

۲۔ قَنَبَ ـِ قَنْبًا الکرمَ انگور کی تکلیف دہ ٹہنیوں کو کاٹ دینا۔ قَنَّبَ الکرمَ انگور کی شاخ تراشی کرنا۔

۳۔ قَنَبَ و تقنب و اِقْتَنَبَ الخیلُ گھوڑوں کی جماعت کا دستہ ہونا کہا جاتا ہے۔ قَنَبُوا و تقنبوا نحو العدوّ: جمع ہو کر دشمن کی طرف روانہ ہونے والے گھوڑوں کا دستہ بن گئے۔ اَقْنَبَ: سفر میں دور جانا۔ القَانِبُ: تیز رفتار قاصد۔ وَادٍ قَانِبٌ: وادی جس کا سیلاب دور سے جاری ہو۔ القَنِيبُ: لوگوں کا گروہ۔ القَنَّابُ تیز رفتار قاصد۔ المِقْنَبُ ج مقانب گھوڑوں کی جماعت جو لوٹ ڈالنے کے لئے جمع ہوں۔

۴۔ القنابُ بلبلانے والا بھیڑیا۔ القِنابُ کمان کی تانت۔

۵۔ القُنْبُرُ سر پر کچھ زائد پر۔ و القُنْبُرَةُ ج قَنَابِرُ (ح) چنڈول نامی ایک قسم کی چڑیا جسے فارسی میں چکاوک کہتے ہیں۔ دجاجة قنبرانية (ح) چوٹی والی مرغی۔

۶۔ القُنْبُضُ مونث قُنْبُضَةٌ (ح) سانپ، پستہ قد والا۔

۷۔ القُنَّبِيطُ (ن) گوبھی، عوام اسے قرنبیط بھی کہتے ہیں۔

۸۔ قَنَبَعَ فی بیته میں چھپنا۔ ـــ ت الشجرةُ غلاف کے اندر پھول یا پھل والا ہونا۔ القُنْبُعُ: درخت کی کلی کا غلاف، خوشہ میں گندم کے دانے کا غلاف۔ القُنْبُعَةُ بمعنی القُنْبُعُ ایک قسم کا بچوں کے لئے کپڑا۔

۹۔ قَنْبَعَ الرجلُ غصہ کی وجہ سے پھولنا۔

۱۰۔ القُنْبُعُ: پستہ قد خسیس مرد۔ القُنْبُعَةُ بمعنی القُنْبُع، پستہ قد عورت قَنْبَعَةُ الخنزیر سور کی خرخراہٹ۔

۱۱۔ قَنْبَلَ العدوَّ (ا ع) دشمن پر توپ کے گولے پھینکنا۔ القَنْبَلُ و القَنْبَلَةُ ج قَنَابِلُ لوگوں یا گھوڑوں کی جماعت۔ القُنْبُلُ و القُنَابِلُ: موٹا قوی مرد۔ القُنْبُلَةُ ج قَنَابِلُ: توپ کا گولہ۔

☜ قنب جمع قنوب پھول کٹوری، قُنَّب و قِنَّب (ن)، سن کا ریشہ، خیط القنب: سن کا رسہ، ڈوری، طناب، سُتلی، قِنَّبی سن کا، سن کے ریشہ کا مِقْنَب جمع مَقَانِب گھڑسواروں کا رسالہ۔ قُنَّار: برنموئی درختوں کی تہ دار ریشوں والی چھال سے بنی ہوئی چٹائی یا پٹی۔ قُنْبُر واحد قُنْبُرَة جمع قنابر چنڈول، چکاوک، لوا میں سے کوئی ایک (یہ زمزمہ سنج پرندے ہیں) قُنْبُرَة جمع قَنَابر بم قُنْبُور کوہان، کُب، ابو قنبور: کوزہ پشت، کبڑا، کُبا، قُنَّاز جمع قَنَابیز مردوں کا لمبا اور آستینوں والا لباس، جو سامنے سے کھلا ہوتا ہے اور پٹی سے بندھا ہوتا ہے۔ قنبل و قنبلة جمع قنابل گھوڑسواروں کا رسالہ، رسالہ، گروہ، جتھا، ٹولی۔ قَنْبَلَ ـ پر بم مارنا۔ قُنْبُلَة جمع قنابل بم، دستی بم۔ قنبلة حارقة آگ (لگانے والا) بم۔ قنبلة غازية گیس بم۔ قنبلة مائية: گہرائی بم جو آبدوزوں اور دیگر آبی اہداف کو تباہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ قنبلة مُحْرِقة: آگ بم۔ قنبلة مُنْفَجِرَة زبردست دھماکہ خیز بم۔ قنبلة هيدروجنية: ہائڈروجن بم۔ (H Bomb)۔ قنبلة اليد دستی بم۔ طائرة مُقَنْبِلة بمبار طیارہ۔ مُقَنْبِلات بمبار طیارے۔

قنت ۱۔ قَنَتَ ـُ قُنُوتًا اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کرنا، (کہا جاتا ہے۔ قَنَتَ اللّٰهَ و قَنَتَ لِلّٰهِ) ـــ لہ: کے آگے ذلیل ہونا۔ اَقْنَتَ اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کرنا۔ اَقْتَنَتَ فرمانبردار ہونا۔ القَانِتُ (فا) ج قُنَّتٌ ہمیشہ اطاعت فرمانبرداری میں رہنے والا۔ اِمْرَأَةٌ قَنُوتٌ شوہر کی تابعدار عورت۔

۲۔ قَنَتَ ـــ قُنُوتًا نماز میں کھڑا ہونا، خاموش ہونا۔ اَقْنَتَ نماز میں قیام طویل کرنا، ہمیشہ حج کرنا، دیر تک جنگ کرنا۔ القَانِتُ ج قُنَّتٌ: نماز پڑھنے والا، کہا جاتا ہے۔ سِقَاءٌ قَنِيتٌ پانی کو روکنے والی مشک جو ٹپکے نہیں۔

۳۔ قَنَتَ ـُ قَنَاتَةً: کم خوراک ہونا۔ القَنِيتُ: (مذکر مونث) کم خوراک۔

۴۔ اَقْنَتَ دشمن کے لئے بددعاء کرنا۔

قنث: قَنْثَلَ الرجُلُ چلنے میں غبار اڑانا۔

قنج ۱۔ القُنْجُلُ غلام۔

قنح ۱۔ قنح ـ قَنْحًا العودَ لکڑی کا سرا موڑنا۔ ـــ و اَقْنَحَ البابَ دروازہ کو لکڑی سے اٹھانا۔ قَنَّحَ الباب: دروازے کے لئے لمبی ٹیڑھی چابی بنانا۔ القُنَاحُ دروازے کا ارل۔ القُنَاحَة لمبی ٹیڑھی کنجی، لکڑی جس کو دوسری لکڑی کے نیچے ڈال کر حرکت دیں۔

۲۔ قَنَحَ ـ قَنْحًا الشاربُ: پینے والے کا سیراب ہو کر سر اٹھانا، سیرابی کے بعد پینے کو ناپسند کرنا۔ تَقَنَّحَ: سیرابی کے بعد پینے کو ناپسند کرنا۔

قنخ. القُنَاخِرُ ح قناخر بڑے جسم والا۔ اَنْفٌ قُنَاخِرٌ موٹی ناک۔ القِنْخَرُ بڑے جسم والا، کشادہ نتھنوں اور سخت آواز منہ والا۔ القِنْخِرَةُ و القُنْخُورُ و القُنْخُورَةُ و القِنْخِيرَةُ: بڑی چٹان۔

☜ قُنوت: اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکسار، خلوص، وفاداری، خدا پرستی، خدا ترسی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم۔ قَنْجَة جمع قنجات و قِناج دریائے نیل میں چلنے والی کشتی۔

قند ۱۔ القَنْدُ ج قُنُودٌ شکر (کند کا معرب) القِنْدِيدُ ج قَنَادِيدُ شکر، کافور، ایک قسم کی خوشبو جو زعفران سے بنائی جاتی ہے، خوشبودار شراب، کہا جاتا ہے جاء بالامر علی قَنَادِيدِهِ وہ معاملہ کو اپنی روش پر لایا۔ القُنْدِيَّةُ (ن) ایک خوشبودار پودا۔ سَوِيقٌ مُقَنَّدٌ شکر ملا ہوا ستو۔ کلامٌ مُقَنَّدٌ شیریں گفتگو۔ سَوِيقٌ مَقْنُودٌ شکر ملا ہوا ستو۔ رجل مَقْنُودُ الكلام: شیریں کلام مرد۔

۲۔ القُنْدُزُ القُنْدُسُ (ح) اود بلاؤ، سنجاب۔

۳۔ قَنْدَسَ گناہ کے بعد توبہ کرنا۔ ـــ فی الارض سیر و سفر کرنا۔ القُنْدُسُ (ح) بمعنی القُنْدُز (اود بلاؤ، سنجاب)

۴۔ القِنْدَعْلُ بے وقوف۔

۵۔ قَنْدَلَ بڑے سر والا ہونا صفت قَنْدَلٌ و قُنَادِلٌ و قَنْدَوِيلٌ ـــ رأسٌ قُنَادِلٌ: بڑا اور مضبوط سر۔ القُنْدُولُ واحد قُنْدُولَة (ن) ایک خاردار درخت۔ القِنْدِيلُ ح قَنَادِيلُ چراغ (لاطینیہ)

۶۔ القَنْدَلَفْتُ گرجا کا خادم (یونانیہ)

قنر ۱۔ اَقْنَرَ چھوٹے مٹکے سے پینا۔ القِنْرُ و الاُقْنِيرُ: چھوٹا مٹکا۔ القَنَزُ قنص میں ایک لغت ہے۔ القانِزُ و القَنَّازُ: شکاری۔

۲۔ القُنْزُعُ و القُنْزُعَةُ و القَنْزَعَةُ و القِنْزِعَةُ: بالوں کا گچھا جو سر پر چھوڑ دیا جائے۔ سر کے گردا گرد بال، پروں کا بقیہ، مرغ کی کلغی۔ القُنْزُعَةُ بمعنی القُنْزُعُ ـــ ج قَنْزُعَاتٌ و قَنَازِعُ: بہت پستہ قد عورت۔ القَنَازِعُ: چھوٹے لوگ، بری کلام۔ بلائیں۔

قنس: ۱۔ اَقْنَسَ الرجُلُ: کمینہ ہوتے ہوئے شریف اصل کی طرف اپنی نسبت کرنا۔ القَنْسُ اصل۔ القِنْسُ اصل۔ القَنَسُ ج قُنُوسٌ و القَوْنَسُ ج قَوَانِسُ و القُونُوسُ: سر کا بالائی حصہ، خود کی چوٹی، راستہ کا درمیان، گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان ابھری ہوئی ہڈی۔ القَيْنَسُ ج قَيَانِسُ (ح) بیل۔

۲۔ قَنْسَرَ تـهُ الشدائدُ او السِنُّ سختیوں یا عمر کا کسی کو بوڑھا کرنا۔ تَقَنْسَرَ بوڑھا ہونا اور جھری پڑنا۔ القَنْسَرُ و القُنْسَرِيُّ و القِنَّسْرُ: بہت بوڑھا عمر رسیدہ۔ القناسِرُ سخت

قنش: قَنَّشَ تَقْنِيشًا ہُ کو کم کرنا۔ قُنِّشَ فی الشیئ: میں کمی کیا جانا۔

قنص: ۱۔ قَنَصَ ـِ قَنْصًا الطيرَ: پرندے کا شکار کرنا۔

تَقَنَّصَ و اِقْتَنَصَ الطیرَ او الظبیَ: پرندے یا ہرن کا شکار کرنا۔ القَانِصَةَ: شکار کرنے والے۔ ـــــ للطیر: ج قَوَانِصُ (ع ا) پرندے کا پوٹا جس طرح انسان کا معدہ۔ القَنَصُ شکار۔ القَنّاصُ شکاری۔ القُنّاصُ (القانص کی جمع) شکاری لوگ۔ القَنِيصُ مونث قَنِيصَةٌ: شکاری، شکار۔

۲۔ القِنْصُ: اصل۔

۳۔ القُنْصُلُ ج قناصِل: پست قد شخص، ایک حکومت کا معتمد جو دوسری حکومت میں رہے نائب، سفیر (لاتینیہ) القُنْصُلِيَّةُ: نائب سفیر کے رہنے کی جگہ۔

قنط ۱۔ قَنَطَ ـ قُنُوطًا ناامید ہونا۔ صفت قَنِطٌ و قانِطٌ و قَنُوطٌ ۔ ہُ کو منع کرنا۔ قَنِطَ ـ قنطا و قنط ـ قناطةً ناامید ہونا صفت قَنِطٌ و قانِطٌ و قَنُوطٌ قَنَّطَ و اَقْنَطَ ہُ کو مایوس کرنا۔

۲۔ قَنطر قَنطَرَ الرجلُ بہت مال کا مالک ہونا۔ القِنطارُ ج قناطیرُ ایک وزن جس کی مقدار مختلف زمانوں میں مختلف رہی۔ سو رطل، مال کثیر، کہا جاتا ہے۔ قَناطِیرُ مُقَنطَرَةٌ: بہت زیادہ مال و دولت۔

۳۔ قَنطَرَ قَنطَرَةً الشيءَ: کو مضبوط باندھنا ـ الفارسُ: گھوڑے کی پیٹھ سے آگے کی جانب گر پڑنا۔ القَنطَرَةُ (مص) ج قَنَاطِرُ: پل، بلند عمارت۔

۴۔ قَنطَرَ قَنطَرَةً و حصہ: کر شہر میں اقامت کرنا۔ ـ علینا: کے پاس

۵۔ القِنطِرُ (ح): ـــــ و القِنطِيرُ: مصیبت۔ القَنطُرْيُونُ و القَنطُورِيُّونُ (ن) ایک

خاردار پودا جس	بخار کے علاج کے
لئے دوائی تیار	القنطریون الصغیر
(ن) ایک کڑ	ور کیڑوں سے نجات
کیلئے استعمال	بات کی تیاری کیلئے بھی

مناسب ہے

☜ قَنَصَ ـ قَنْصًا و اقتنص الظروف: حالات سے فائدہ اٹھانا ـــــ الفُرْصَةَ: موقعہ سے فائدہ اٹھانا۔

قَنَص: …	ق چلانا۔ قَنَص شکار،
صید، قَنِيص:	…۔ قَنَّاص جمع قَنَّاصَة۔
شکاری، قانِص	قُنَّاص: شکاری۔ قانِصَة جمع
قَوانِص:	قانِصة جمع قانصات: نینک
شکن،	…)۔ مَقْنُوص: شکار، صید۔

☜ قُنْصُل قناصِل … صل، نائب القنصل او وکیل القنصل … ب قونصل، قُنصُل عام قونصل … ل۔ قُنْصُلي قنصلي، سفارتی، وکالتی قُنْصُلِيَّة جمع قنصليات: قنصل خانہ، قونصل کا دفتر یا عہدہ، قنصل کی فرودگاہ۔ قُنْصُلِيّة عامة: قونصل خانہ عمومی۔ قُنصلا تو قونصل خانہ۔

☜ قَنْطَرَ ـ ہ کی محراب بنانا، پر پل بنانا، قَنْطَرَة جمع قَنَاطِر محراب دار پل، سنگی پل، محراب دار چھت، قوسی چھت، محراب۔ مسقف راستہ، محرابی راستہ، قبہ، گنبد، پل درہ، (جمع) بند پشتہ۔ قنطرة موازنة نهر سے آبیاری کی باقاعدگی قائم رکھنے والا آلہ۔ القناطر الخيرية: دریائے نیل کے ڈیلٹا کے مدخل پر بنے ہوئے بند، جو قاہرہ سے 15 میل شمال میں واقع ہیں۔ مُقَنْطَر محراب دار، قوس دار، مسقف (راستہ) محرابی گزرگاہ، محرابی (عمارت)، قبہ دار، محراب سے ڈھکا ہوا، محرابی شکل میں یا محرابوں سے بنا ہوا۔ قَنطَرَ: غیر معمولی دولت مند ہونا۔ قناطیر مُقَنْطَرَة: غیر معمولی مال، ڈھیروں دولت، قِنطاریون: بھکوا۔ قَنطرمة جمع قنطرمات: اضافی لگام۔

قنع ۱۔ قَنَعَ ـ قُنُوعًا سوال کرنا اور جھک جانا۔ قَنِعَ ـ قَنَعًا و قَنَاعَةً و قُنْعَانًا اپنے حصے پر راضی ہونا۔ قَنَّعَ ہُ: کو راضی کرنا۔ اَقْنَعَ بيديه في الصلوٰة: ہاتھ پھیلانا اور اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنا۔ ـــــ الاناءَ: برتن بھرنے کے لئے اسے پانی کے بہاؤ کی طرف کر دینا کہا جاتا ہے۔ اَقْنَعَ الاناءَ في النهر: یعنی اس نے بھرنے کے لئے برتن کو نہر میں پانی کے بہاؤ کی طرف کر دیا۔ تَقَنَّعَ: بتکلف قناعت کرنا۔ اِقْتَنَعَ بالشيءِ: پر راضی ہونا۔ القَانِعُ (فا) ج قَانِعُونَ و قُنَّعٌ: قناعت کرنے والا، عاجزی سے سوال کرنے والا، قوم کا خادم، قوم کا اجرت پر کام کرنے والا۔ القَنِعُ: جو تقسیم میں مل جائے اس پر راضی ہونے والا۔ القُنْعَةُ: سوال۔ رَجُلٌ قُنْعَانٌ: تھوڑی سی چیز پر راضی ہونے والا امرد۔ ـــ شاهِدٌ قُنْعَانٌ: شاہد عدل کہ جسے اور جس کی گواہی کافی سمجھی جائے (مذکر و مونث مفرد جمع سب کے لئے) رَجُلٌ قُنْعَانِيٌّ جس کی رائے پسند ہو۔ القُنُوعُ (مص) تقسیم شدہ پر رضامندی۔ لالچ، سوال، اظہار عاجزی، میلان۔ القَنُوعُ ج قُنُعٌ و القَنِيعُ ج قُنَعَاءُ بمعنی قَنِعٌ ۔ المُقْنِعُ (فا): ذلت کے ساتھ سر کو اوپر اٹھانے والا۔ شاهِدٌ مَقْنَعٌ ج مَقَانِعُ شاہد عدل کہ وہ خود یا اس کی گواہی کافی سمجھی جائے کہا جاتا ہے۔ فُلانٌ لَنا مَقْنَعٌ: فلاں کے لئے رضامندی ہے جس پر ہم قانع ہیں۔

۲۔ قَنَعَ ـ قُنُوعًا الشاةُ: بلند تھن والی ہونا یا جس کا تھن درست نہ ہو۔ ـــ قُنُوعًا الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ قَنِعَ ـ قَنَعًا الشاةُ: بلند تھن والی ہونا۔ اَقْنَعَ رأسَهُ او صوتَهُ: سر یا آواز بلند کرنا۔ ـ الاناءَ: برتن کو جھکانا تاکہ اس میں موجود چیز گر جائے۔ ـ واسْتَقْنَعَ ت الشاةُ: بلند تھن والی ہونا۔ القُنْعُ ج قِنَعَةٌ و اَقْنَاعٌ: ریت کا گول ٹیلہ۔ القُنْعَةُ: دیوار میں روشندان۔ القَنَعَةُ: انسانی سر کا ابھرا ہوا حصہ۔ ـــ من الجبل والسنام: پہاڑ یا کوہان کی چوٹی۔ المُقْنَعُ (مفع): وہ شخص جو اپنے سر کو خلقۃً اوپر اٹھائے ہوئے ہو۔

۳۔ قَنَعَ ـ وَقَنِعَ ـ قَنَعَاتِ الابلُ: اونٹوں کا تھان پر آنا۔ قَنَعَ الديكُ: مرغ کا لڑائی کے وقت گردن کے پروں کو کھڑا کرنا۔ اَقْنَعَ الابلَ: اونٹوں کو چراگاہ کی طرف لوٹانا اپنی طرف مائل کرنا، ان کے مالکوں کی طرف بڑھانا۔ اِقْتَنَعَ ت الابلُ: اونٹوں کا تھان پر واپس آنا۔ ـــ الرجلُ الابلَ او الغنمَ لما واها: اونٹوں یا بکریوں کو تھان پر واپس لانا۔ فَمٌ مُقْنَعٌ: ایسا منہ جس کے دانت اندر کی طرف کو مڑے ہوئے ہوں۔

۴۔ قَنَعَ المرأة: عورت کو دوپٹہ اڑھانا۔ ـــ رأسَهُ بالسيف او العصا: کے سر پر لاٹھی یا تلوار سے مارنا۔ ـ ہُ خزيةً و عارًا: کو رسوائی یا عار میں مبتلا کر دینا، کہا جاتا ہے۔ قَنَّعَهُ الشَّيْبُ خِمارَهُ: یعنی اس پر بڑھاپا چھا گیا۔ تَقَنَّعَ: کپڑے میں لپٹنا۔ ـ في السلاح: ہتھیار بند ہونا۔ ـــ ت المرأة بالقناع: دوپٹہ اوڑھنا۔ القِنْعُ ج اَقْنَاعٌ: ہتھیار۔ القِنْعَةُ ج قِنَعٌ جج قِنْعَانٌ: دو ٹیلوں کے درمیان ہموار جگہ۔ القِنَاعُ ج اَقْنِعَةٌ و اَقْنِعَةٌ: دوپٹہ ـ ج قُنُعٌ ہتھیار۔ ـ (ع ا): دل کا غلاف، کہا جاتا ہے۔ كَشَفَ القِنَاعَ عَنِ الشَّيْءِ کنایہ ہے تصریح کرنے سے۔ المِقْنَعُ والمِقْنَعَةُ: سر پر ڈالنے کی اوڑھنی۔ المُقَنَّعُ (مفع): سر پہ خود رکھنے والا، کپڑے میں لپٹا ہوا، سر چھپانے والا۔

۵۔ القانِعُ ج قانِعُونَ و قُنَّعٌ: ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا۔ القِنْعُ ج قِنَعَةٌ و اَقْنَاعٌ: پہاڑ کے قرب میں بقیہ پانی ـــ و القِنْعُ جمع قِنَعة و اقناع: کھجور کی لکڑی کی پلیٹ جس میں کھانا رکھا جاتا ہے۔ القِناعُ جمع اقناع و اقنعة: کھانا رکھنے کی تھالی القَنَعَةُ: باریک ریت۔

۶۔ القَنَعاتُ: چہرے اور بدن پر بہت بالوں والا امرد۔

☜ قِنْعٌ جمع اَقْنَاع: ہتھیار، زرہ بکتر، بکتر قِنَاع جمع قُنُع: ہتھیار، زرہ بکتر، بکتر جمع اَقْنِعَة: … اوڑھنی، دوپٹہ، نقاب، غلاف قلب، پردہ دل، دل کی جھلی۔ قِنَاعٌ واقٍ: گیس ماسک، گیس نقاب في ذلك مَقْنَعٌ لَهُ: وہ اس کے لئے کافی ہے۔

کرسکتا ہے۔ قانِع ب: سے مطمئن، پر قانع۔ مُقَنَّع: نقاب اوڑھے ہوئے، نقاب پوش، برقع پوش، پردہ کیے ہوئے۔ مُقْتَنِع: قائل۔ ــ ب: سے مطمئن، پر قانع

قنف: ۱۔ قَنِفَ ـ قَنَفًا المكانُ: جگہ کا پھٹی ہوئی مٹی والا ہونا۔ قَنَّفَ ہٗ بالسیف: کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اِسْتَقْنَفَ المجلسُ: گول ہونا۔ القَنَفُ (مص): کان کا چھوٹا اور سر سے ملا ہوا ہونا۔ القَنَفُ: سیلاب کا کیچڑ جو زمین پر باقی رہ جائے اور پھٹ جائے۔ الاَقْنَفُ مونث قَنْفاءُ ج قُنْفٌ: چھوٹے اور موٹے کان والا۔ القَنْفاءُ: انسان کا کان جس کے لئے دائرہ نہ ہو۔ بکری کا موٹا کان۔ القَنِيفُ ج قُنُفٌ: لوگوں کی جماعتیں۔

۲۔ قَنِفَ ـ قَنَفًا الفرسُ: گھوڑے کا سفید گدی والا ہونا۔ الاَقْنَفُ من الخیل: سفید گدی والا گھوڑا۔ مونث قَنْفاءُ ج قُنْفٌ:

۳۔ اَقْنَفَ: ڈھیلے کان والا ہونا۔

۴۔ اَقْنَفَ: بہت لشکر والا ہونا۔ القَنِيفُ: بہت پانی والا بادل۔ جمع قنف

۵۔ اقنف و اِسْتَقْنَفَ: رائے اور تدبیر کا درست ہونا۔

۶۔ القَنِفُ: سر پر تھوڑے بالوں والا۔ القِنافُ و القُنافُ: بڑی ناک والا۔ القَنِيفُ ج قُنُفٌ: کم خوراک مرد۔

۷۔ القُنْفُذُ ج قَنافِذُ مونث قُنْفُذَةٌ (ح): سیہی۔

۸۔ القُنْفُذُ: درخت جو ریت کے درمیان ہو، ریت کا بلند ڈھیر۔ (ح): چوہا۔ ــ و القُنْفُذ ج قَنافِذُ مونث قُنْفُذَةٌ (ح): سیہی، کہا جاتا ہے۔ هُوَ قُنْفُذُ لَيْلٍ یعنی وہ چغل خور ہے۔ القنافِذُ: چھوٹے پہاڑ۔

۹۔ قنفش قَنْفَشَةً ہٗ: کو جلدی جمع کرنا۔ تَقَنْفَشَ: سکڑنا۔ القُنافِشُ: چھلی ہوئی ناک اور سخت داڑھی والا۔ المُقَنْفِشُ (فا) فی اللباس: بری ہیئت اور لباس والا۔ کہا جاتا ہے۔ جَاءَ مُقَنْفِشًا لحیتَہٗ: داڑھی کو بری ہیئت میں کیے ہوئے آیا۔

۱۰۔ تَقَنْفَعَ تِ القُنْفُذَةُ: سیہی کا سمٹنا۔ القُنْفُعُ: پستہ قد شخص، کمینہ۔ ــ و القِنفَع (ح): چوہا القُنْفُعَةُ (ح): مادہ سیہی، چوتڑ۔

قنق: ۱۔ القِناقُ: مسافر کی منزل جہاں وہ اترے (ترکیہ)۔ ایک دن کی مسافری طے کردہ منزلیں کبھی قِناق کہلاتی ہیں۔ (ترکی لفظ)

۲۔ القُنْقُرُ (ح): کنگرو (آسٹریلوی عجیب جانور) مادہ کنگرو خطرے کے وقت اپنے بچے کو قدرتی بنی ہوئی تھیلی میں ڈال کر بھاگ جاتی ہے۔ اس کی ایک قسم القنقر الجبّار ہے جو اپنی دم کے غیر معمولی حجم سے ممتاز ہے۔

۳۔ القِنْقِنُ: راہ نما۔ واحد مونث قِنْقِنَةٌ (ح): ایک قسم کا چوہا ــ (ح): سمندری سیپی۔ ــ و القَناقِنُ ج قَناقِنُ: زمین کے نیچے پانی معلوم کرلینے والا انجینئر (دخیل)

○ قُنْفُذ البحر یا قنفذ بحری: بحری خارپشت، خارپشت مچھلی۔

○ قُنقر: کنگرو (آسٹریلیا کے کیسہ دار جانوروں کی ایک قسم)۔

قنم: ۱۔ قَنِمَ ـ قَنَمًا الجوزُ: اخروٹ کا خراب ہونا صفت قَانِمٌ ــ الفرسُ ونحوُهٗ: نمی پہنچنے کے بعد غبار وغیرہ لگ کر میلا کچیلا ہونا۔ ــ الطعام و اللحمُ و السقاءُ وغیرُها: خراب ہونا، بد بودار ہونا صفت قَنِمٌ و اَقْنَمُ: اسی سے کہا جاتا ہے۔ يَدِيْ قَنِمَةٌ مِنَ الزَّيْتِ: میرا ہاتھ تیل سے خراب ہے۔ القَنَمَةُ: تیل وغیرہ کی بدبو۔

۲۔ الاُقْنُومُ ج اَقانِيمُ: شخص، اصل (سریانی)۔

○ قَنِمَ ـ قَنَمًا: بد بودار ہونا یا ہو جانا۔ قنومۃ: مقدس مچھلی، اُقْنُوم جمع اقانیم: تثلیث میں سے کوئی ایک، بنیادی عنصر، جوہر، مادہ، حقیقی اصول۔

قنو: ۱۔ قَنا ـُ قَنْوًا و قُنْوانًا و قُنُوًّا المالَ: کو جمع کرنا، اپنے لئے حاصل کرنا۔ قَنٰى يَقْنِيْ و قَنِيَ يَقْنٰى قُنُوًّا و قَنِيَ و اِسْتَقْنَى الحياءَ: کو لازم پکڑنا۔ اَقْنٰى ہٗ اللّٰہُ: کو اللہ کا غنی کرنا، مالدار بنانا۔ ــ الحیاءَ: کو لازم پکڑنا۔ تَقَنّٰى: نفقہ سے بچے ہوئے کا ذخیرہ کرنا۔ اِقْتَنَى المالَ: جمع کرنا، اپنے لئے حاصل کرنا۔ ــ الحیاءَ: کو لازم پکڑ۔ القَنْوَةُ و القِنْوَةُ: کمائی، کہا جاتا ہے۔ لَہٗ غَنَمٌ قُنْوَةٌ و قِنْوَةٌ: اس کی بکریاں صرف اس کی ہیں۔ القَناوَةُ: بدلہ۔ القَنِيُّ و القَنِيَّةُ: بکری یا اونٹنی جس کو ذخیرہ بنایا جائے۔

۲۔ قَنا ـُ قَنْوًا اللّٰہُ الشیءَ: کو پیدا کرنا۔ القَنا: پیدائش۔

۳۔ قَنا ـُ قُنُوًّا لونُ الشیءِ: کا رنگ گہرا سرخ ہونا۔ اَحْمَرُ قانٍ: بہت گہرا سرخ۔ القَنا (ن): گلاب کی قسم کا ایک پودا۔ جنوبی امریکہ والے اور ہندی لوگ اس سے سرخ رنگ بناتے ہیں۔

۴۔ قَنِيَ يَقْنٰى قَنًا الانفُ: ناک کے نتھنوں کا تنگ ہونا اور درمیان سے اونچا ہونا صفت اَقْنٰى ـ قَنَّى القناةَ: نالی کھودنا۔ القَنا ج قِناءٌ (جیسے جَبَلٌ کی جمع جِبالٌ) نیزہ۔ القَنا و القَنِيُّ و القُنُوُّ و القِنُوُّ ج اَقْناءٌ و قُنْيانٌ و قِنْيانٌ و قُنْوانٌ و قِنْوانٌ: کھجور کا گچھا۔ القَناةُ ج قُنًى و قِناءٌ و قَنَواتٌ: کھجور کا درخت لگانے کا گڑھا۔ نالی۔ ڈنڈا۔ ــ ج قَنًا و قُنِيٌّ و قَنَواتٌ و قَنَياتٌ: نیزہ یا نیزہ کی لکڑی، کہا جاتا ہے فُلانٌ صُلْبُ القَناةِ: فلاں سخت قد والا ہے۔ القَنّاءُ: نالی کھودنے والا۔ ــ و المُقْنِيُّ: نیزے والا۔ الاَقْنٰى من الانوف مونث قَنْواءُ: نتھنے تنگ اور درمیان سے بلند ناک، کہا جاتا ہے۔ هُوَ اَقْنَى الاَنْفِ: وہ تنگ نتھنے اور درمیان سے بلند ناک والا ہے۔

۵۔ اَقْنَتِ السماءُ: بارش رک جانا۔

۶۔ القَناةُ ج قُنًى و قِناءٌ و قَنَواتٌ (ح): جنگلی گائے۔ القَناءُ و الاَقْناءَةُ من الحائط: دیوار کی وہ جانب جس پر سایہ رجوع کرے۔ القُنُوُّ: سیاہی۔ القَنْوانُ: موٹا۔ المَقْناةُ و المَقْنُوَةُ: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچے

قنی: ۱۔ قَنٰى يَقْنِيْ قَنْيًا و قِنْيانًا و قُنْيانًا المالَ: کی کمائی کرنا۔ ــ الحیاءَ: حیاء دار ہونا۔ قَنّٰى اللّٰہُ فلانًا: کو راضی کردینا۔ قانٰی مُقاناةً الشیءُ: ہمیشہ رہنا، آپ کہیں گے قانٰی لِيْ فِي الصَّيْفِ ظِلٌّ بارِدٌ: گرمی کے موسم میں میرے لئے مستقل ٹھنڈا سایہ میسر رہا۔ ــ الشیءُ فلانًا: کے موافق ہونا، تم کہو گے۔ ما يُقانِيْنِيْ هٰذَا الشیءُ: یعنی یہ چیز میرے موافق نہیں ہے۔ اَقْنٰى اِقْناءً اللّٰہُ فلانًا: کو غنی کرنا اور خوش کرنا۔ ــ الصيدُ فلانًا و لفلانٍ: شکار کا کی زد میں آجانا، کے قریب آجانا۔ القُنْيَةُ و القِنْيَةُ ج قِنًى: کمائی، کہا جاتا ہے لَہٗ غَنَمٌ قُنْيَةٌ و قِنْيَةٌ: اس کی بکریاں صرف اسی کی ہیں۔ اَرْضٌ مَقْناةٌ: ہر شخص کے موافق آب و ہوا والی زمین۔

۲۔ قانٰی مُقاناةً الشیءَ: کو ملانا۔

قہ: قَهْقَہَ قَهْقَهَةً: کھلکھلا کر ہنسنا۔

قہب: ۱۔ قَهِبَ ـ قَهَبًا: بھورے رنگ کا ہونا صفت قَهْبٌ و اَقْهَبُ۔ القُهْبَةُ: بھورا رنگ۔ القُهابُ و القُهابِيُّ: سفید۔

۲۔ اَقْهَبَ عن الطعام: کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا اور اس کی خواہش نہ کرنا۔

۳۔ القَهْبُ (ح): بڑا اونٹ۔ الاَقْهَبانِ (ح): ہاتھی اور بھینس۔

قہد: قَهَدَ ـ قَهْدًا فی مشیہ: چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔ القَهْدُ ج قِهادٌ: سفید، تیرہ گول، صاف رنگ کا ــ (ح): ایک قسم کی بکری۔ ــ (ح): بچھیا، گائے کا بچہ۔ ــ (ن): نرگس کی کلی جبکہ کھلی ہوئی نہ ہو۔

○ قناة جمع اَقْنِيَة و قَنَوات: نہر، چشمہ، کشتی یا جہاز رانی کے قابل گزرگاہ، قَناة العَلَم: وہ بانس یا ڈنڈا جس کے ساتھ جھنڈا لہراتا ہے۔ قَنَاية جمع قنايات: چھوٹا چشمہ، ندی، نالہ۔ قُنَيَّة: پچکاری، جراحی نلکی۔ اَقْنَى: جھکا ہوا، موڑا ہوا، ٹیڑھا، موڑ والا، گھنڈی والا، ہک والا۔ اِقتناء: خریدنا، حصول، اکتساب قان جمع قانِيَة: قابض، مالک۔ مُقْتَنَى جمع مُقْتَنَيَات: اکتساب کردہ یا حاصل کردہ چیز، حصول، اکتساب۔

قہر ۱۔ قَهَرَ ـَ قَهْرًا ہُ: پر غالب ہونا۔ قُهِرَ اللحمُ: گوشت کو آگ کا جلانا جس کی بنا پر اس سے پانی نکلنا قَاهَرَ ہُ: پر غالب آنا۔ اَقْهَرَ ہُ: کو مغلوب پانا۔ ـــ الرجلُ: ذلت اور قہر کی طرف معاملہ والا ہونا، مقہور دوستوں کا ساتھی ہونا۔ القاهِرَةُ القاهِرُ کا مونث۔ القُهْرَةُ: مجبوری کہا جاتا ہے۔ هُوَ قُهْرَةٌ لِلنَّاسِ: وہ ہر ایک کا مقہور ہے۔ القَهَّارُ اسم مبالغہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔

۲۔ القاهِرُ ج قَوَاهِرُ: بلند، کہا جاتا ہے جَبَلٌ قاهِرٌ و جِبالٌ قَوَاهِرُ۔ القاهِرَةُ: سر سینہ کندھے اور گردن کے درمیان کا گوشت، ہر چیز کا سابق۔ القَهْرَةُ ج قَهَرَاتٌ من النساء: بہت شریر عورت۔

۳۔ القَهْرَمُ: پستہ قد مرد۔ القَهْرَمَانُ ج قَهَارِمَةٌ: وکیل، آمد و خرچ کا منتظم۔ القَهْرَمَةُ: قہرمان کا وظیفہ۔ اور فعل

۴۔ قَهْقَرَ قَهْقَرَةً و تَقَهْقَرَ: پچھلے پاؤں لوٹنا، کہا جاتا ہے۔ هُوَ يُقَهْقِرُ فِي مِشْيَتِهِ: جبکہ پچھلے پاؤں چلے القَهْقَرَى: پچھلے پاؤں لوٹنا، کہا جاتا ہے۔ رَجَعَ القَهْقَرَى: وہ پچھلے پاؤں لوٹا۔ القُهْقُورُ: عمارت جسے بڑے پتھروں سے بناتے ہیں اور عوام قَعْقُور کہتے ہیں۔

قہز: قَهَزَ ـَ قَهْزًا: کودنا۔ القِهْزُ: ریشم۔

قہل: ۱۔ قَهَلَ ـَ قَهْلًا و قُهُولًا جلدُهُ: کی کھال خشک ہونا۔ قَهِلَ ـَ قَهَلًا جلدُهُ: کی کھال خشک ہونا۔ ـــ الرجلُ: جسم کو آلودہ رکھنا، پاک صاف نہ رکھنا۔ اَقْهَلَ الرجلُ: اپنے آپ کو میلا کچیلا رکھنا۔ تَقَهَّلَ: جسم آلودہ رکھنا کپڑے پاک صاف نہ رکھنا۔ ـــ جلدُهُ: کی کھال خشک ہونا۔ ـــ الرجلُ: بدحال ہونا، پانی سے نا آشنا ہونا گندا ہونا۔

۲۔ قَهَلَ ـَ قَهْلًا الرجلُ: ناشکری کرنا، کفران نعمت کرنا۔ ـــ فلانًا: کی بری تعریف کرنا۔

۳۔ اَقْهَلَ الرجلُ: لایعنی امور میں مشغول ہونا۔

۴۔ تَقَهَّلَ: آہستہ چال چلنا، اپنی حاجت کا گلہ کرنا۔ ـــ صوتُهُ: کی آواز کا نرم وضعیف ہونا۔ اِنْقَهَلَ: کمزور ہونا اور گر پڑنا۔

۵۔ القَيْهَلُ و القَيْهَلَةُ: چہرہ پیکر، کہا جاتا ہے۔ حَيَّا اللّٰهُ هٰذِهِ القَيْهَلَةَ: اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو باقی رکھے۔

قہم ۱۔ قَهِمَ ـَ قَهَمًا الرجلُ: قلیل الاشتہاء ہونا صفت قَهِمٌ۔ اَقْهَمَ عن الطعام: کھانے کی خواہش نہ رکھنا۔ ـــ اليه: کی خواہش کرنا۔ ـــ عن الشيئ: کو ناپسند کرنا۔ ـــ عن الشراب و الماء: کو چھوڑنا۔ ـــ ت الابلُ عن الماء: اونٹوں کا پانی پر نہ جانا۔

۲۔ اَقْهَمَ ت السماءُ: آسمان کا بادل سے صاف ہو جانا۔

۳۔ قَهْمَزَ قَهْمَزَةً: کودنا۔ القَهْمَزَى: گھوڑے کا پو یہ دوڑنا، جلد بازی، نشاط۔ القَهْمَزُ: پستہ قد کا۔ القَهْمَزَةُ (مص) من النساء: بہت پستہ قد عورت۔

○ قَهَرَهُ على: کو پر مجبور کرنا، پر کے لئے دباؤ ڈالنا۔ قَهْرًا: زبردستی، لازماً، ناچار، لاچار۔ قَهْرِي: مجبور کن، لازمی، توفیقی، جبری۔ ابتسامة قهرية: جبری مسکراہٹ۔ سببٌ قهريٌّ: مجبور کن وجہ۔ قاهِر: زوردار، قوی، بہت زوردار، ناقابل مزاحمت، غالب، فاتح، القاهر: مریخ (سیارہ)۔ مصر القاهرة یا القاهره: قاہرہ (شہر) قاهِرِيّ: قاہری، قاہرہ کا، جمع قاهريون قاہرہ کے لوگ۔

○ قَهْرَمان جمع قهارمه: ہوائی جہاز میں مسافروں کا نگران خادم، خانساماں، گھر کا منتظم۔ قهرمانة: گھر کی منتظمہ۔

○ قَهْقَرَ: پیچھے جانا، پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، پیچھے رہنا، پستی کی طرف جانا، زوال پذیر ہونا، تَقَهْقَرَ: بمعنی بالا۔ قَهْقَرة: پیچھے کی طرف حرکت، پیچھے ہٹنا معاشی انحفاض، پسپائی، رجعت قہقری، پستی، اوٹ۔ قَهْقَرَى: بمعنی بالا۔ عادَ القهقرى: پسپا ہونا۔ تَقَهْقُر: پیچھے ہٹنا، دست کشی، تنزل، انحطاط، پسپائی۔

○ قَهْقَهَ: قہقہہ مارنا، قہقہے مار کر ہنسنا، قَهْقَهَة: قہقہہ، قرماً قہقہہ۔

قہو ۱۔ اَقْهَى: قہوہ پینے کی مداوت کرنا۔ القَهْوَةُ: شراب، بیان کیا جاتا ہے کہ شراب کو قہوہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے پینے والے کی اشتہاء کم ہو جاتی ہے، خالص دودھ، پوری شکم سیری، بو (کہا جاتا ہے اِنَّ فُلَانًا طَيِّبُ قَهْوَةِ الفَمِ: یعنی فلاں کے منہ کی بو بڑی اچھی ہے)۔ مولدین درخت بُن کو بھی قہوہ کہتے ہیں اور اس درخت سے بیج کی جو چیز بنائی جاتی ہے اسے بھی قہوہ کہتے ہیں۔ ـــ ج قَهَوَاتٌ (جس جگہ کثرت سے قہوہ پیا جائے اس کو بھی مجازاً قہوہ کہتے ہیں۔) المَقْهَى ج مَقَاهٍ: ٹی سٹال، قہوہ خانہ۔

۲۔ القَهْوَانُ (ح) عمر رسیدہ موٹے سینگوں والا بکرا۔

۳۔ قَهْوَسَ: تیز چلنا دوڑنا۔ ـــ الرجلُ: خوف سے دوڑنا۔ تَقَهْوَسَ: دوڑنا، جھک کر مضطربانہ چال چلنا۔ کبڑا ہونا۔

قہی: قَهِيَ ـَ قَهًا عن الطعام: کی اشتہا کم ہونا۔ ـــ عن الشراب: کو چھوڑنا۔ اَقْهَى اِقْهَاءً عن الطعام: کی اشتہا کم ہونا۔ اِقْتَهَى عن الطعام: بغیر مرض کے کھانے کی خواہش نہ ہونا۔ القاهِي: تیز خاطر۔ عَيْشٌ قاهٍ: خوش عیشی۔

○ قَهْوَة: قہوہ، کافی Coffee قهوة و قَهَاوى: کیفے، قہوہ خانہ۔ قهوة سادة: چینی کے بغیر کافی قَهْوَاتي و قَهْواتي جمع قَهَاوِية: قہوہ خانے کا مالک قَهْوَجي: قہوہ خانے کا مالک، کافی بنانے والا۔ مَقْهًى و مَقْهاة جمع مَقَاهٍ: قہوہ خانہ، کیفے۔ مَقْهاية: قہوہ خانہ، کیفے۔

○ قَهِيَ من الطعام و أَقْهَى من الطعام: کم بھوک لگنا، کم اشتہاء ہونا۔ قاهٍ: اشیاء خوردنی مہیا کیا ہوا۔

قوب: ۱۔ قَابَ ـُ قَوْبًا الارضَ: زمین کو گولائی میں کھودنا۔ قَوَّبَ الارضَ: زمین کو گولائی میں کھودنا، میں روند کر نشان چھوڑنا۔ اِنْقَابَ ت الارضُ: زمین کا کھدنا۔

۲۔ قَابَ ـُ قَوْبًا الرجلُ: کے قریب ہونا۔ القَابُ: مقدار، کہا جاتا ہے۔ هُوَ عَلَى قَابِ قَوْسَيْنِ: کنایہ ہے بہت قریب ہونے سے، کمان کے قبضہ اور گوشہ کمان کے درمیان کا فاصلہ۔ القِيبُ: مقدار کہا جاتا ہے۔ بَيْنَهُمَا قِيبُ قَوْسٍ۔

۳۔ قَابَ ـُ قَوْبًا الطائرُ: پرندے کا اپنے انڈے کو توڑنا۔ ـــ الرجلُ: بھاگنا۔ تَقَوَّبَ و اِنْقَابَ ت البيضةُ: انڈے کا پھٹنا۔ القَابَةُ و القَائِبَةُ (ح): چوزہ، انڈا، اور مثال میں ہے تَخَلَّصَتْ قَائِبَةٌ مِنْ قُوبٍ اور قَابَةٌ مِنْ قُوبٍ: یعنی انڈا چوزے۔ ـــ جدا ہو گیا، یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب کوئی اپنے ساتھی سے جدا ہو جائے۔ القُوبُ ج اَقْوَابٌ (ح): چوزہ۔ القُوبُ: انڈے کا چھلکا۔ القُوبِيُّ: چوزے کھانے کا حریص۔

۴۔ قَوَّبَ الشيئَ: کو اکھیڑنا۔ تَقَوَّبَ: جڑ سے اکھڑنا۔ ـــ و اِنْقَابَ المكانُ: جگہ کو درخت اور گھاس سے صاف کیا جانا، کہا جاتا ہے تَقَوَّبَ مِنْ رَأْسِهِ مَوَاضِعُ: یعنی اس کے سر میں چند جگہیں چھل گئیں۔ اُمُّ قُوبٍ: مصیبت القَوْبَاءُ و القُوَبَاءُ ج قُوَبٌ و القُوَبَةُ و القُوبَةُ: (طب) داد کی بیماری، عوام اسے حزاز کہتے

ہیں۔ المُتَقَوِّبُ چھلا ہوا، داد کھجلی کی وجہ سے کھال چھلا ہوا اور بال منڈا مرد۔ ـــ من الحیّات کینچلی اترا ہوا سانپ۔

۵۔ اِقْتَابَ الشیئَ کو پسند کرنا۔

۶۔ القُوبَۃُ گھر پر مقیم، کہا جاتا ہے۔ فُلانٌ بِیلِیءٌ قُوبَۃٌ: یعنی وہ تو گھر ہی رہتا ہے۔

۞ قَابَ ـُ قَوْبًا ... کھودنا ـ ھٗ کو کھودنا، کریدنا، (بھٹ) بنانا، کو کھودنا، کو کھود کر بنانا۔ تَقَوَّبَ انڈے کا ٹوٹ یا پھٹ کر کھلنا۔ قَابٌ کمان کے وسط اور سرے کے درمیان) تھوڑا فاصلہ۔ علی قاب قوسین: بالکل قریب سر پر کھڑا۔ علی قاب لَمْحَۃٍ: ابھی لحہ بھر میں۔ قُوبٌ جمع اَقْوَابٌ چینگا، چوزہ۔ قُوبَاءُ و قُوَبَاءُ و قُوبَۃٌ و قُوبَۃٌ جمع قُوَبٌ کوئی سی جلدی بیماری tetter جیسے داد، کھجلی وغیرہ۔

قوت ۱۔ قَاتَ یَقُوتُ قَوْتًا و قِیَاتَۃً الرجلَ کو روزی دینا، گزارہ دینا، خوراک دینا۔ اَقَاتَ اِقَاتَۃً فلانًا و علی فلان: کو گزارہ دینا، پر قدرت رکھنا، کی حفاظت کرنا۔ تَقَوَّتَ بالشیئ کو کھانا۔ اِقْتَاتَ اِقْتِیَاتًا بالشیئ: کو کھانا۔ ـ الشیئَ کو خوراک بنانا، کہا جاتا ہے۔ فُلانٌ یَقْتَاتُ الْکَلامَ فلاں کم گفتگو کرتا ہے۔ اِسْتَقَاتَ اِسْتِقَاتَۃً فلانًا سے گزارہ طلب کرنا۔ القَاتُ روزی۔ ـــ من العیش: کفایت، کہا جاتا ہے۔ ھُوَ فِی قَاتٍ مِّنَ العَیْشِ یعنی کفایت میں ہے۔ القُوتُ ج اَقْوَاتٌ خوراک۔ القُوَاتُ والقِیتُ والقِیتَۃُ: خوراک گزارہ کے لائق۔ المُقِیتُ (فا) قدرت رکھنے والا، نگہبان، گواہ۔

۲۔ القَاتُ (ن) بوٹی جس کے نشہ آور پتے چبائے جاتے ہیں۔

۞ قَاتُ الرُّعْیَانِ: کاہو، سلاد۔ مَوَادُّ القُوتِ: اشیائے خوراک۔ تَقَوُّتٌ غذا۔ المُقِیتُ: کھلانے والا، پروردگار (اللہ تعالیٰ کا ایک نام)

قوح ۱۔ قَاحَ ـُ قَوْحًا و تَقَوَّحَ الجرحُ زخم سوجنا۔

۲۔ قَاحَ ـُ قَوْحًا و قَوَّحَ البیتَ گھر میں جھاڑو دینا۔ القَاحَۃُ ج قُوحٌ: صحن، کہا جاتا ہے۔ دَخَلْتُ قَاحَۃَ الدَّارِ: میں گھر کے صحن میں داخل ہوا۔

۳۔ اَقَاحَ اِقَاحَۃَ الرجلُ: سوال کے بعد منع کرنے کا ارادہ کرنا۔

قوح۔ قَاحَ یَقُوحُ قَوْحًا جوفُہٗ: ... کی وجہ سے کسی کا پیٹ خراب ہونا۔ لَیْلَۃٌ قَاحَۃٌ تاریک رات۔

۞ قَاحَ ـ قَوْحًا (زخم) خراب ہوجانا، زخم میں پیپ پڑ جانا، زخم پکنا۔ تَقَوَّحَ بمعنی قَاحَ۔ قَاوَحَ لڑنا، جھگڑنا، جھگڑا کرنا۔

قود ۱۔ قَادَ یَقُوْدُ قَوْدًا و قِیَادَۃً و قِیَادًا و مَقَادَۃً و قَیْدُوْدَۃً الدابّۃَ چوپائے کو آگے سے کھینچنا۔ ـ قِیَادَۃَ الجیشَ. سالار جیش ہونا۔ ـــ القاتلَ الی موضع القتل: قاتل کو قصاص کے لئے لے جانا۔ قَوَّدَ تَقْوِیْدًا و تَقْوَادًا الدابّۃَ: چوپائے کو آگے سے کھینچنا۔ قَاوَدَ مُقَاوَدَۃً ہٗ کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اَقَادَ آگے بڑھنا۔ الغیثُ: بارش کا پھیلنا۔ ـــ ہٗ خیلًا کو گھوڑے آگے سے کھینچنے کے لئے دینا۔ ـــ القاتلَ بالقتیل مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دینا۔ تَقَاوَدَ الرجلان دو مردوں کا ایک ساتھ بھاگنا، جیسے دونوں ایک دوسرے کو ہانک رہے ہوں۔ المکانُ جگہ کا ہموار ہونا۔ اِنْقَادَ اِنْقِیَادًا: کھنچنا۔ ـ لفلان: کا تابعدار ہونا۔ ـــ الطریقُ الی کذا: تک واضح ہونا۔ اِقْتَادَ اِقْتِیَادًا: کھینچنا۔ ـ الدابّۃَ کو کھینچنا۔ کہا جاتا ہے۔ اِقْتَادَ الدَّابَّۃَ فَاقْتَادَتْ اس نے جانور کو کھینچا پس وہ کھنچ گیا (لازم و متعدی) اِسْتَقَادَ ذلیل ہونا، فروتنی کرنا۔ ـــ لہٗ کا فرمانبردار ہونا۔ ـــ الامیرَ سے مقتول کا قصاص لینے کی درخواست کرنا، کہا جاتا ہے۔ اِسْتَقَادَ الامیرَ مِنَ القاتلِ فَاَقَادَہٗ منہ: اس نے امیر سے قاتل سے قصاص لینے کی استدعا کی تو امیر نے قصاص لے لیا۔ القَائِدُ ج قُوَّادٌ و قُوَّدٌ و قَادَۃٌ جج قَادَاتٌ (اع): کمانڈر دستہ، سالار فوج۔ قائد الموقع علاقائی فوج کا سالار القَائِدَۃُ القائد کی مونث القَوْدُ (مص): کوتل گھوڑے، کہا جاتا ہے: مَرَّ بِنَا قَوْدٌ: ہمارے پاس سے کوتل گھوڑے گزرے۔ القَوَدُ قصاص، مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا۔ القَوَّادُ اسم مبالغہ۔ فَرَسٌ قَوُوْدٌ و قَوُوْدٌ و قَیِّدٌ و قَیْدٌ: سدھایا ہوا تابعدار گھوڑا۔ القِیَادُ: جانور کو کھینچنے کی رسی، کہا جاتا ہے فُلانٌ سَلِسُ القِیَادِ یعنی فلاں تیری مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اَعْطٰی فُلانٌ القِیَادَ: فلاں خوشی سے فرماں بردار ہوگیا۔ بعض کے نزدیک مجبورًا۔ القِیَادَۃُ: قائد کا پیشہ۔ وہ جگہ جہاں قائد رہتا ہو۔ القیادۃ العامۃ: سپریم کمانڈ، سپریم کمانڈر کا مرکز۔ الاَقْوَدُ: مطیع و فرمانبردار گھوڑا، مضبوط گردن والا۔ بخیل، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے والا، اور باز نہ رہنے والا، کہا جاتا ہے۔ اَعْطَاہٗ مَقَادَتَہٗ: یعنی وہ اس کا فرمانبردار ہوگیا۔ المِقْوَدُ ج مَقَاوِدُ: جانور کو کھینچنے کی رسی۔ المَقْوُوْدُ (مفع): اصل کا لحاظ کرتے ہوئے اسے مَقْوُوْد بھی کہا جاتا ہے۔ طَرِیْقٌ مُنْقَادٌ: سیدھا راستہ۔

۲۔ قَوِدَ یَقْوَدُ قَوَدًا الفرسُ وغیرہ لمبی پیٹھ اور گردن والا ہونا صفت اَقْوَدُ مونث قَوْدَاءُ جمع قُوْدٌ۔ القائد جمع قُوَّادٌ و قُوَّدٌ و قَادَۃٌ و جج قَادَاتٌ: مستطیل زمین یا پہاڑ، پہاڑ کی چوٹی۔ القَائِدَۃُ زمین پر پھیلا ہوا ٹیلہ۔ القَوْدُ مصدر (قود) الاَقْوَدُ والمُقْوَدُّ: لمبا پہاڑ۔

۳۔ قَیِدَ الدقیقُ آٹے کا اکٹھا ہونا، گوندھا جانا اور پکایا جانا۔

۴۔ القَادُ و القِیْدُ مقدار اور مسافت کہا جاتا ہے بَیْنَھُمَا قَادُ قَوْسٍ او قِیْدُ قَوْسٍ یعنی دونوں کے درمیان کمان کی مقدار ہے۔

۞ قَادَ ـُ قَوْدًا و قِیَادًا و قِیَادَۃً و مَقَادَۃً (گاڑی) چلانا، (ہوائی جہاز) چلانا۔ ـــ دلالی کرنا، بھڑوا ہونا۔ اَقَادَہٗ سے ترکی بہ ترکی جواب دلوانا۔ اِسْتَقَادَ: بدلہ لینا۔ قَوْدٌ قیادت، رہنمائی، رہبری۔ بھڑواپن، دلالی۔ قَوَدٌ: انتقام۔ قَوَّادٌ بھڑوا، دلال۔ قَؤُودٌ مطیع، اطاعت شعار، قابو میں آنے والا، اطاعت پذیر، فرمان پذیر، سدھایا ہوا (گھوڑا) اَقْوَدُ مطیع، اطاعت پذیر، اطاعت شعار، قابو میں آنے والا، فرمان پذیر۔ قِیَادٌ: قیادت، رہنمائی، رسّا (گھوڑے کی گردن میں ڈالا ہوا) سَلِسُ القِیَادِ: مطیع، اطاعت شعار، قابو میں آجانے والا، اطاعت پذیر، فرمان پذیر، اثر پذیر، صَعْبُ القِیَادِ: خودسر، سرکش، بے لگام، منہ زور، آسانی سے قابو میں نہ آنے والا۔ قِیَادۃٌ قیادت رہنمائی، ڈرائیوری، چلانا، (گاڑی) چلانا، کمانڈ۔ القیادۃ العُلْیَا (او العامۃ): سپریم کمانڈ۔ عَجَلَۃُ القِیَادَۃِ (گاڑی) کا رخ ٹھیک رکھنے کا پہیہ Steering wheel مِقْوَدٌ جمع مَقَاوِدُ: جانور کو کھینچنے کی رسی، سٹیرنگ وہیل، قَائِدٌ جمع قُوَّادٌ و قُوَّدٌ و قَادَۃٌ و قادات: رہنما، لیڈر، ڈائریکٹر، منیجر، سربراہ، ہیڈ، چیف، کمانڈر، کمانڈینٹ، اعلیٰ افسر، سینئر آفیسر، جہاز کا رخ ٹھیک رکھنے والا، سکان گیر، پتوار چلانے والا، جہاز چلانے والا، جہاز ران۔ قائد الجیش: جنرل، آرمی کمانڈر، قائد عام، سپریم کمانڈر۔ القائد الاعلی: کمانڈران چیف (مصری بحریہ کا) قائد عام الاساطیل الجوّیۃ: ہوائی فوج کا لفٹیننٹ جنرل، قائد الاساطیل الجوّیۃ: ہوائی فوج کا میجر جنرل، قائد اسطول جوّی: ہوائی فوج کا کرنل۔ قائد لواء جوّی: ہوائی فوج کا لیفٹیننٹ کرنل۔ قائد فرقۃ جوّیۃ: ہوائی فوج کا میجر۔ قائد جناح: ونگ کمانڈر۔ قائد سرب ہوائی فوج کا کیپٹن قادۃ الفکر: سرکردہ مفکرین۔

قور ۱۔ قَارَ یَقُوْرُ قَوْرًا پنجوں کے بل چلنا۔ ـ الصیدَ

کو فریب دے کر شکار کرنا۔ اِقْتَارَ اِقْتِیَارًا حدیثھم: کی کھود کرید کرنا۔

۲- قَارَ یَقُوْرُ قَوْرًا فلانًا: کی آنکھ پھوڑنا۔ ـــ قَوْرًا و قَوَّرَ تَقْوِیْرًا و اِقْتَارَ اِقْتِیَارًا و اِقْتَوَرَ اِقْتِوَارًا الشیئَ: کو گول کاٹنا۔ قَوِرَ یَقْوَرُ قَوَرًا الرجلُ: کانا ہونا تَقَوَّرَ السحابُ: بادلوں کا علیحدہ علیحدہ گول ٹکڑے ہونا۔ ـــ اللیلُ: اکثر رات گزر جانا۔ اِنْقَارَ اِنْقِیَارًا: واقع ہونا۔ ـــ ت البئر: کنویں کا گر جانا۔ ـــ بہ: مائل ہونا۔ اِقْوَرَّ اِقْوِرَارًا ت الارضُ: کی روئیدگی کا جاتا رہنا۔ القَارُ: اونٹوں کا بڑا گلہ۔ القَارَۃُ ج قَارٌ و قَارَاتٌ و قُوْرٌ و قِیْرَانٌ: پہاڑوں سے علیحدہ چھوٹا پہاڑ۔ القُوَارَۃُ: کپڑے وغیرہ کا گول کٹا ہوا حصہ کسی چیز کے کٹے ہوئے اطراف، جس سے کوئی حصہ الگ کیا جائے۔ الاَقْوَرُ: مونث قَوْرَاءُ: کشادہ۔ الاَقْوَرِیَاتُ والاَقْوَرُوْنَ: بڑی بڑی مصیبتیں۔

۳- تَقَوَّرَ تِ الحیّۃُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ اِقْوَرَّ اِقْوِرَارًا الجلدُ: میں دبلے پن کی وجہ سے جھری پڑنا، نرم ہونا۔ ـــ الفرسُ: گھوڑے کا دبلا ہونا۔ ـــ فلانٌ: موٹا ہونا۔ المُقْوَرُّ: دبلا گھوڑا۔

۴- اِقْتَارَ اِقْتِیَارًا الرجلُ: محتاج ہونا۔

۵- القَارُ: سیاہ رنگ کا ایک روغن جس کو کشتی وغیرہ پر ملتے ہیں واحد مونث قَارَۃٌ (ن): ایک کڑوا درخت۔ القَارَۃُ ج قَارٌ و قَارَاتٌ و قُوْرٌ و قِیْرَانٌ (ح): مادہ ریچھ۔ القُوْرُ: نئی روئی، روئی کی رسی۔ المُقَوَّرُ: تارکول کیا ہوا، تارکول ملا ہوا۔

قوز: قَوَّزَ تَقْوِیْزًا النبتُ: نباتات کا بکثرت ہونا۔ تَقَوَّزَ البیتُ: گھر کا منہدم ہونا۔ ـــ الوعلُ: پہاڑی بکرے کا دوڑنا۔ اِقْتَازَہُ النمرُ: کو چیتے کا پھاڑ کھانا۔

○ قَوَّرَہٗ: میں گول سراخ کرنا، میں چھینی سے نالیاں یا سوراخ کھودنا، کو گول شکل میں کاٹنا۔ تَقَوَّرَ: سانپ کا کنڈلی مار کر بیٹھنا۔ اِقْتَارَ و اِقْتَوَرَ: بمعنی قَوَّرَ۔ قَار: رال، قیر، کولتار، لک قَارَۃ جمع قَارَات و قُوْر و قِیْرَان: پہاڑی۔ مِقْوَرَۃ: گول چھینی۔ تَقْوِیْر: سوراخ کرنا، گول شکل میں کاٹنا، نالیاں یا سوراخ کھودنا۔ تَقْوِیْرَۃ: قمیص کا گلا۔ مُقَوَّر: گول شکل میں کاٹا ہوا، گول سراخ کیا ہوا، نالیاں یا سوراخ کھودا ہوا، کفچے سے نکالا ہوا، بسولی سے چھیلا ہوا، گردن اور شانوں پر کھلی ہوئی پوشاک قَوْزَمَۃ: قورمہ۔

قوس: ۱- قَاسَ یَقُوْسُ قَوْسًا الشیئَ علیٰ غیرہ وبہ: کا نمونہ پر اندازہ کرنا۔ ـــ القومَ: پر سابق ہونا۔ قَاوَسَنی فقُسْتُہٗ: اس نے کمان کے عمدہ ہونے میں مجھ سے مقابلہ کیا تو میں غالب رہا۔ اِقْتَاسَ الشیئَ: کا اندازہ کرنا۔ ـــ بفلان: کی اقتداء کرنا۔ القُوْسُ: ذراع۔ ہاتھ (پیمانہ)۔ القَیَّاسُ والمُقَاوِسُ: گھوڑوں کو چلانے والا۔ المِقْوَسُ ج مَقَاوِسُ: میدان، رسی کہ جس سے گھوڑ دوڑ میں گھوڑوں کی صف بندی کی جاتی ہے، وہ مقام جہاں سے گھوڑ دوڑ میں گھوڑے دوڑنا شروع کرتے ہیں۔

۲- قَوِسَ ـــ قَوَسًا و اِسْتَقْوَسَ الرجلُ: خمیدہ پشت ہونا۔ قَوَّسَ الرجلُ: خمیدہ پشت ہونا ت السحابۃُ: بارش ہونا۔ البارودۃَ و نحوھا: بندوق وغیرہ چلانا (عامیہ)۔ ہٗ بالبارودۃ: پر بندوق چلانا۔ تَقَوَّسَ: مڑا ہوا ہونا، کمان کی مانند ہونا۔ ـــ قَوْسَہٗ: کمان اٹھانا۔ القَوْسُ ج قِسِیٌّ و قُسِیٌّ و اَقْوَاسٌ و قِیَاسٌ و اَقْوُسٌ و اَقْیَاسٌ: تصغیر قُوَیْسٌ و قُوَیْسَۃٌ: کمان، مونث ہے اور کبھی مذکر بھی استعمال کرتے ہیں اور نسبت کے لئے قِسْوِیٌّ: اور متعلقہ چیز کی طرف اضافت کر کے کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً: قَوْسُ نَدْفٍ و قَوْسُ نَبلٍ وغیرہ۔ ہر منحنی چیز جو کمان کی طرح ہو۔ قَوْسُ قُزَحٍ (فک): دھنک، ایک آسمانی برج۔ قَوْسُ الرَّجُلِ: جھکی ہوئی پیٹھ۔ قَوْسُ خَطٍّ مُنْحَنٍ کدائرۃ: مڑا ہوا خط دائرہ کی مانند۔ القُوْسُ: شکاری کا جھونپڑا۔ القَوَّاسُ ج قَوَّاسَۃٌ: کمان والا، کمان بنانے والا، کمان چلانے والا، بندوق سے شکار کرنے والا قونصل اور پادری وغیرہ کا خادم القُوَیْسُ والقُوَیْسَۃُ (القوس کی تصغیر)۔ اسی سے مثال ہے۔ ھُوَ مِنْ خَیْرِ قُوَیْسٍ سَھْمًا: یہ مثال اس کے لئے پیش کی جاتی ہے جو آپ کی مخالفت سے باز آ کر آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ القَیَّاسُ: کمان درست کرنے والا۔ الاَقْوَسُ: جھکی ہوئی پشت والا۔ کبڑا۔ المِقْوَسُ ج مَقَاوِسُ: کمان رکھنے کا تھیلا۔

۳- تَقَوَّسَہُ الشیبُ: بڑھاپے کا بالوں کو کھچڑی کرنا۔

۴- القُوْسُ: راہب کا معبد خانہ۔ القَوْسُ والقَوْسِیُّ من الایام: سخت اور لمبا دن۔ الاَقْوَسُ: بلند ریت کا ڈھیر۔ ـــ من الایام: سخت اور لمبا دن۔ لَیْلٌ اَقْوَسُ: بہت تاریک رات۔ بَلَدٌ اَقْوَسُ: دور کا شہر۔ القُوَیْسَۃُ: اور اسے ناعمۃ بھی کہتے ہیں (ن): چٹانوں کے شگافوں میں اگنے اور گلابی رنگ کے پھولوں والی ایک قسم کی خوشبودار نباتات جو طبی فوائد کی حامل ہے۔

قوصر: تَقَوْصَرَ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ القَوْصَرَۃُ والقَوْصَرَّۃُ: کھجور وغیرہ رکھنے کا بانس کا بنا ہوا ٹوکرا۔

○ قوس (مذکر و مونث) جمع اَقْوَاس و قُسِی و قِسِی: کمان، لمبی کمان، کسی دائرے یا خم دار خط کا کوئی حصہ (جومیٹری) محراب یا محراب دار چھت (کسی پل کی) سارنگی کی کمان، نصف دائرہ کی میز۔ قوسان: قوسین (کسی عبارت کے دونوں طرف) القَوْس: منطقۃ البروج کا ایک برج قوس (یا دھن) بین قوسین: قوسین کے درمیان، قوسین میں۔ قَوْس قُزَح: دھنک، قوس النَّدْف: روئی دھننے یا اون تومنے کی کمان۔ قوس النصر: محراب فتح۔ لم یَبْقَ فی قوس صبری مَنْزَعٌ: میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ (لفظی ترجمہ، میرے صبر کی کمان کیلئے کوئی تیر نہیں بچا)۔ قَوَّاس: کمانیں بنانے والا، تیر انداز، قونصل کا محافظ قُوَیْسَۃ: ساج ایک سدابہار جھاڑی اور اس کی پتیاں جو دواؤں اور ذائقہ پیدا کرنے کے کام آتی ہیں۔ مُقَوَّس: جھکا ہوا، مڑا ہوا، ٹیڑھا، محرابی۔

○ قُوش جمع اَقْوَاش: چمڑے کی پٹی جو زین کے پچھلے حصہ کے ایک طرف سے شروع کر کے گھوڑے کی دم کے نیچے سے نکال کر دوسری طرف باندھی جاتی ہے تاکہ زین اپنی جگہ سے کھسکنے نہ پائے۔ گھوڑے کا تنگ۔ قاوُوش جمع قَوَاوِیش: جیل کی کوٹھڑی۔ قید خانے کی کال کوٹھڑی۔

○ قَوَّاص: بمعنی قَوَّاس

قوض: قَاضَ یَقُوْضُ قَوْضًا البناءَ: عمارت ڈھانا۔ قَوَّضَ البناءَ: عمارت ڈھانا۔ ـــ الصفوفَ والمجالِسَ: کو منتشر کرنا، برخاست کرنا۔ کہا جاتا ہے: بَنَی فلانٌ ثُمَّ قَوَّضَ: جب کوئی بھلائی کے بعد برائی کرے۔ تَقَوَّضَ: آنا جانا۔ نہ نکلنا۔ ـــ ت الحَلَقُ او الصفوفُ: حلقوں اور صفوں کا متفرق ہونا۔ اِنْقَاضَ البناءُ: عمارت کا منہدم ہونا۔

○ تَقَوَّضَ: مسمار ہونا، ڈھے جانا، گر پڑنا، بھیڑ کا منتشر ہو جانا۔ ـــ عن: سے باز رہنا، کی اطاعت قبول کر لینا، کے دباؤ کے تحت شکست ہو جانا، سے دست بردار ہو جانا۔ مُقَاوَضَۃ: مبادلہ۔

قوط: القُوْطُ ج اَقْوَاطٌ: بکریوں کا ریوڑ۔ القَوْطَۃُ: بڑا ٹوکرا۔ القُوْطَۃُ: کھجور۔ القَوَّاطُ: بکریوں کے ریوڑ کو چرانے والا۔

○ القُوط: قوطی لوگ۔ قُوطِی: قوطی، قوط سے متعلق۔ قُوطَۃ: (پھلوں کی) چھوٹی ٹوکری، کھجوروں کی ٹوکری۔ قُوطَۃ: ٹماٹر، ولایتی بینگن۔

قوع: قَاعَ یَقُوْعُ قَوْعًا: پیچھے رہنا۔ پچھلے پاؤں مڑنا۔ ـــ و تَقَوَّعَ: کانٹے دار جگہ میں چلنے والے کی طرح بچنا

بچاتا چلنا۔ القاعُ ج اَقْوَاعٌ و اَقْوُعٌ وقِيعٌ و قِيعَانٌ وقِيعَةٌ: پست ہموار پہاڑ اور ٹیلوں سے دور واقع زمین۔ القاعَةُ ج قَاعَاتٌ: گھر کا صحن۔ ڈرائنگ روم۔ القَوْعُ (مص) ج اَقْوَاعٌ: گندم اور کھجور وغیرہ کے خشک کرنے کی جگہ۔ القُوَاعُ مونث قُوَاعَةٌ (ح): خرگوش۔ القَوَّاعُ (ح): بلبلانے والا بھیڑیا۔

قوف: ا۔ قَافَ يَقُوفُ قَوْفًا و اِقْتَافَ اثرفلان: کی پیروی کرنا، کے پیچھے جانا تَقَوَّفَ اثر فلان: کا کھوج لگانا، کو تلاش کرنا ــــ ہ فی المجالس: کو بات کرنی سکھلانا، کلام کی اصلاح کرنا۔ کہا جاتا ہے: هُوَ يَتَقَوَّفُ عَلَيَّ مَالِيْ: وہ میرے مال کو مجھ سے روکتا ہے۔ القَائِفُ (فا) ج قَافَةٌ: کھوج لگانے والا قیافہ شناس، مولود کے اعضاء کو دیکھ کر اپنی فراست سے اس کا نسب بتانے والا۔ القَوَافُ و القَوَّافُ: کھوج لگانے والا۔ الاَقْوَفُ: اسم تفضیل، کہا جاتا ہے۔ هو اَقْوَفُ النَّاسِ لِلاَثرِ: وہ لوگوں میں سے نشانات کا زیادہ کھوج لگانے والا ہے۔

۲۔ القَافُ من الرقبة: گدی کے بال القُوْفُ: کان کا بالائی حصہ۔ و القُوْفَةُ من الرقبة: گدی کے بال، کہا جاتا ہے۔ اَخَذْتُهُ بِقُوفِ رَقَبَتِهِ: میں نے اس کی پوری گدی پکڑلی۔ القُوفِيُّ: ہر خوشبو دار دھونی۔

◯ قاع جمع قِيعان و اَقْوَع و اَقْوَاع: ہموار پست زمین، سب سے نچلا حصہ، پیندا، دو موجوں، انخفاض، کان کا فرش، گہرا بڑا گڑھا، اتھاہ، قاعُ النهر: دریا کی تلہٹی، بلادُ القاعِ: نیدر لینڈز (نشیبی ملک ہالینڈ و بلجیم) قاعة جمع قاعات: پختہ فرش والا صحن، ڈیوڑھی، ہال، کافی بڑا کمرہ۔ قاعةُ المحاضرات: لیکچر ہال، (یونیورسٹی) آڈیٹوریم قاعةُ التدريس: لیکچر روم، کلاس روم قاعةُ الطعام: کھانے کا کمرہ، مشترکہ کھانے کا ہال، قاعة العرش: تاج والا کمرہ قاعة المطالعة: ریڈنگ روم، سٹڈی ہال۔ قاعة الافراح: خاص ضیافت کا ہال، بال روم (اجتماعی رقص کا کمرہ)

قوق: ا۔ قَاقَ يَقُوقُ قَوْقًا ت الدجاجةُ: مرغی کا کڑ کڑانا۔ القَاقُ: بے وقوف۔ (ح): پہاڑی کوا۔ عندالعامة ج قِيقَانٌ (ح): کوا۔ و القُوقُ: لمبی گردن والا آبی پرندہ۔ ــــ و القِيقُ من الرجال: بہت لمبا مرد۔ القُوقَةُ (ح): ایک قسم کا پرندہ جو اجاڑ جگہوں میں رہتا ہے۔ القَاوُوقُ ج قَوَاوِيقُ: ایک قسم کی لمبی ٹوپی جو عجمی ممالک میں استعمال کی جاتی ہے (فارسیہ)

۲۔ قَوْقَا قَوْقَاةً ت الدجاجةُ: مرغی کا کڑکڑانا۔

۳۔ قَوْقَلَ قَوْقَلَةً الرجلُ في الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔

۴۔ قَوْقَى قَوْقَاةً و قِيقَاءً: چیخنا، چلانا۔

◯ قاق جمع قيقان: پہاڑی کوا، قاقُ الماء قوق (ماہی خور پرندہ) امُّ قُوَيق: الو، بوم۔ القوقاز اور القوقاس: کا کیشیا، قفقاز، کوہ قاف۔ بحیرہ اسود سے بحیرہ کیسپین تک پھیلا ہوا سلسلہ کوہ القوقازيون: اس علاقہ کے لوگ۔

قَوْقَع: سیپی قَوْقَعَة جمع قَوَاقِع: گھونگا۔

قول: ا۔ قَالَ يَقُولُ قَوْلًا وقَالًا وقِيلًا و قَوْلَةً و مَقَالًا و مَقَالَةً: کہنا، بولنا۔ ــــ بكذا: کا حکم کرنا، پر اعتقاد رکھنا۔ غالب ہونا ــــ به: سے محبت کرنا اور اسے اپنے لئے خاص کرنا۔ ــــ لهُ: سے خطاب کرنا۔ ــــ عنه: سے روایت کرنا۔ ــــ عليه: پر افترا کرنا، تہمت لگانا۔ برأسه: سر سے اشارہ کرنا۔ بيده: ہاتھ جھکا کر پکڑنا۔ ــــ برجله: چلنا۔ بثوبه: کپڑے کو بلند کرنا۔ فيه وعنه: میں اجتہاد کرنا۔ اور قَالَ ظَنَّ کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کا عمل کرتا ہے بشرطیکہ مخاطب کا صیغہ اور فعل مستقبل ہو اور اس سے پہلے استفہام اور استفہام اور فعل کے درمیان ظرف کے علاوہ کسی اور چیز کا فاصلہ نہ ہو جیسے۔ اَتَقُولُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا بمعنی اَتَظُنُّهُ مُنْطَلِقًا: اور بعض کے نزدیک ظَنَّ کے معنی میں بلا کسی شرط کے مستعمل ہے چاہے استفہام ہو یا نہ ہو، صیغہ مخاطب کا اور فعل مستقبل کا ہو یا نہ ہو جیسے قُلْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا بمعنی ظَنَنْتُ اور کبھی یہ مَالَ اور اَقْبَلَ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور افعال کی تیاری کو بھی قول سے تعبیر کرتے ہیں کہا جاتا ہے قَالَ فَأَكَلَ و قَالَ فَضَرَبَ وغیرہ۔ قَوَّلَ هُ: کو بات کہنے کی تعلیم دینا یا اس کا یعنی کہنے کا حکم دینا۔ ــــ و اَقَالَ اِقَالَةً و اَقْوَلَ اِقْوَالًا فلانًا مَالم يَقُل: سے نہ کہی ہوئی بات کو منسوب کرنا۔ قَاوَلَ مُقَاوَلَةً هُ فی الامر: سے پر مباحثہ کرنا۔ تَقَوَّلَ عليه القولَ: کے متعلق جھوٹ گھڑنا۔ تَقَاوَلُوا فی الامر: پر گفت و شنید کرنا۔ اِقْتَالَ الشيئَ: کو پسند کرنا۔ ــــ عليهم: پر حکم لگانا۔ ــــ بالثوب ثوبا: کپڑے کو کپڑے سے بدل لینا۔ القَائِلُ ج قُوَّلٌ و قُيَّلٌ و قَالَةٌ و قُوَّوْلٌ (فا)۔ القَالُ: ابتدایا سوال، کہنے والا جیسے رَجُلٌ قَالٌ بمعنی قَائِلٌ۔ القَالُ و القِيلُ: (دونوں مصدر ہیں): گفتگو کہا جاتا ہے۔ كَثُرَقَالُ النَّاسِ وقِيلُهُمْ لوگوں کی باتیں بڑھ گئیں۔ القَالَةُ: لوگوں کے اندر بھلی یا بری پھیلی ہوئی بات، کہا جاتا ہے۔ كَثُرَتْ قَالَةُ النَّاسِ

لوگوں میں پھیلی ہوئی اچھی یا بری بات بڑھ گئی۔ ــــ و القَوْلَةُ بمعنی القول۔ القَوْلُ ج اَقْوَالٌ جج اَقَاوِيلُ: کلام یا ہر ایک لفظ، گفتگو آرا و اعتقادات، کہا جاتا ہے۔ هٰذَا قَوْلُ فُلَانٍ: یہ فلاں کی رائے یا اعتقاد ہے۔ القِيلُ: جواب۔ القَيْلُ ج اَقْوَالٌ و اَقْيَالٌ و قُيُولٌ: رئیس۔ حمیر کے بادشاہ کا لقب۔ القُوَلَةُ والقُوَّالَةُ و القُوَّلُ و القُوُوْلُ ج قُوُلٌ و قُوْلٌ و التِقْوَلَةُ و التِقْوَالَةُ: خوش بیان، بہت بولنے والا۔ القَوَّال جمع قُوَّل و قُوُل: خوش بیان، بہت بولنے والا۔ ــــ ج قَوَّالُونَ: گویا۔ ــــ فی اصطلاح الزجالين: ترنم اور لے سے پڑھنے والا۔ المَقَالُ (مص): گفتگو۔ المَقَالَةُ: گفتگو، کتاب کا ایک حصہ۔ المُقَاوَلَةُ: دو یا زائد اشخاص کے درمیان کسی کام یا عمارت کی تعمیر یا تجارت وغیرہ کے مسئلہ پر باہمی شرکت پر بات چیت، گفتگو، بحث، معاہدہ، سودا وغیرہ المِقْوَلُ ج مَقَاوِلُ و مَقَاوِلَةٌ: زبان ــــ و المِقْوَال ج مَقَاوِل و مَقَاوِلَةٌ: اچھی گفتگو کرنے والا، تیز زبان شخص ــــ اِمْرَأَةٌ مِقْوَلٌ و مِقْوَالَةٌ: اچھی گفتگو کرنے والی۔ تیز زبان عورت المَقُوْلُ و المَقْوُوْلُ (مفع) مَقُوْلُ القَوْلِ عند النحاة: القول کا مفعول۔ كَلِمَةٌ مُقَوَّلَةٌ: بار بار کہا ہوا کلمہ۔

۲۔ قَالَ يَقُولُ قَوْلًا و قَالًا و قِيلًا و قَوْلَةً و مَقَالًا و مَقَالَةً: مرنا۔ ــــ القومُ بفلان: کو قتل کرنا۔ الحائطُ: دیوار گرنا۔

۳۔ قَالَ يَقُولُ قَوْلًا و قَالًا و قِيلًا و قَوْلَةً و مَقَالًا و مَقَالَةً: آرام کرنا۔ القَائِلَةُ: دوپہر کا قیلولہ۔

◯ قَالَ ـُ قولا ہ ل: کچھ کسی سے کہنا، کچھ کسی کو بتانا۔ ــــ ہ عن و فی: کے متعلق یا بارے میں کسی کو کچھ بتانا، کہنا۔ ــــ ہ کا اظہار کرنا، کچھ کہنا، بولنا، زبان سے نکالنا۔ ــــ عن: کے بارے بات کرنا، سے متعلق ہونا، پر ہونا۔ ــــ ب: کو بیان کرنا، (رائے) رکھنا، کو وثوق سے کہنا۔ کو پیش کرنا، کی تعلیم دینا، تسلیم کرنا، کی وکالت کرنا، تائید کرنا، کے حق میں بولنا، کی حمایت کرنا، نظریہ ہونا، کے لئے جدوجہد کرنا (نظریہ وغیرہ) کا حامی ہونا، کو بیان کرنا۔ ــــ علی: کے خلاف بولنا، کے متعلق چھوٹی باتیں بتانا۔ قال برأسه: سر کے اشارے سے کہنا۔ قِيلَ فی المَثَلِ: کہاوت، ضرب المثل ہے کہ۔۔۔۔ ولايُقَالُ اِنَّ: کوئی کہہ نہیں سکتا کہ، کوئی نہ کہے کہ اَوْقُلْ: یا اس کے بجائے یا ٹھیک ٹھیک کہنا چاہیے کہ۔۔۔۔ وقُلْ مِثْلَ هذه فی یا و كذلك قل فی یا وقُلْ مِثْلَهُ فی: یہی بات کے بارے میں کہنی چاہیے،

یہی بات کے بارے میں کہی جا سکتی ہے، یہی بات سے مطابقت رکھتی ہے۔ قَاوَلَ ہٗ: سے صلاح مشورہ کرنا، سے شرائط کی بات چیت کرنا، سے شرائط طے کرنا، سے گفت وشنید کرنا، سے قیمت پر بول تول کرنا، معاملہ طے کرنا، سودا کرنا، کے ساتھ سودا کرنا، معاملہ طے کرنا۔ ــــ: جھگڑنا، شور مچا کر جھگڑنا، بحث کرنا، ٹھیکہ دینا یا لینا۔ تَقَوَّلَ علی: کے بارے میں افواہیں پھیلانا، جھوٹی باتیں گھڑنا، بنانا ــــ ہ کو مضر معنی میں بیان کرنا (جھوٹا بیان) دینا، کا ادعاء کرنا۔ تَقَوَّلَ الاقزبل: حماقت کی باتیں کرنا۔ اِسْتَقْوَلَ (ریڈیو پر آواز) ادا کرنا، پیش کرنا، قَال و قِیل و قِیل و قال: طویل گفتگو، مباحثہ یا لاطائل گفتگو، فضول گفتگو، گپ شپ۔ قالة: گفتگو، تقریر۔ سُوْءُ القالة: کینہ جو گپ شپ، چغل خوری، ہتک عزت، قَوْل جمع اقوال و اقاویل: لفظ، تقریر، قول، کہنا، بیان اعلان، رپورٹ (کسی مذہب کی) تعلیم، عقائد، جمع اقوال: (عدالت میں) شہادت، تصدیقی بیان، اَقَاوِیل: مقولے، محاورے، کہاوتیں، ضرب الامثال۔ قولاً و عَمَلاً یا بالقول و الفِعل: قول اور عمل سے اقوال الشہود: شہادتیں، حلفی بیانات، گواہیاں۔ أَعْطَ قولَہ: (نیلام، نیلامی میں) بولی دینا۔ قَوْلَةٌ: قول، ارشاد، مقولہ، اعلان۔ قَوَّال: بکواسی، باتونی، فصیح، بے تکلف باتیں کرنے والا، جگہ جگہ جا کر گانے والا، مطرب۔ مِقْوَل جمع مَقَاوِل: فونوگراف، گراموفون، باتیں کرنے والی مشین۔ مقال: تقریر، مقالہ، رسالہ، تحریر کا ٹکڑا، تعلیم، حجت، عقائد۔ مَقَالَة جمع مقالات: مضمون، جواب مضمون، مقالہ، رسالہ۔ مقالة اِفتتاحِیة: اداریہ، ادارتی مقالہ، افتتاحیہ۔ مقاولة: گفتگو، مکالمہ، مشاورت، مناقشت، معاہدہ، ٹھیکہ، تصفیہ، سودا، معاملہ، کاروبار۔ بالمقاولة: ٹھیکہ کے کام کے مطابق، بقدر کام۔ تقوُّل جمع تقوُّلات: بات چیت، افواہ، گپ شپ۔ قائِل جمع قُوَّل: کہنے والا، بتانے والا، بیان کرنے والا، کہانی کہنے والا۔ ــــ ب: کا حامی، موید، محرک۔ مَقُول جمع مقولات: بات، جو کہا جائے، اظہار خیال، لفظ الفاظ، گفتگو۔ المقولاتُ العَشر: دس مقولے (فلسفہ) مقاوِل: ٹھیکیدار، عمارتی ٹھیکیدار قَوْل: فوج کا بازو، فوجی دستہ، جیش (ترکی) قول اغاسی: ایجوٹنٹ میجر (Adjutant major) قَوْلَحَة جمع قَوَالِح: مکئی، جوار، باجرہ وغیرہ کا) بھٹا یا تکلہ۔ قَوْلَنج: قولنج، تشنج۔ قَوْلَون: قولون، بڑی آنت۔

قوم: ۱۔ قَامَ یَقُوْمُ قَوْمًا و قَوْمَةً و قِیَامًا و قَامَةً: کھڑے ہونا ٹھہرنا، تم چلنے والے کو کہتے ہو۔ قُمْ لِیْ: یعنی میری وجہ سے ٹھہرو۔ ــــ الامرُ اعتدال پر ہونا۔ قَوَّمَ دَرْأَہٗ: کی کجی کو دور کرنا۔ قَاوَمَ قِوَامًا و مُقَاوَمَةً ہٗ: کے ساتھ کھڑا ہونا، کی مخالفت کرنا۔ اَقَامَ اِقَامَةً و قَامَةً ہٗ: کو کھڑا کرنا۔ ــــ المائِلَ او المُعوَّجَ: کو سیدھا کرنا اور تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ مَا اَقْوَمَہٗ: وہ کتنا اعتدال پر ہے اور یہ مزید سے آنے کی وجہ سے شاذ ہے۔ تَقَوَّمَ: سیدھا ہونا۔ تَقَاوَمُوْا فی الحرب: بعض کا بعض کے لئے کھڑا ہونا۔ استقام استقامةً: اعتدال پر ہونا، سیدھا ہونا۔ اِسْتَقَامَ لَہُ الْاَمْرُ: اس کے لئے معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ ــــ الشِعْر: شعر موزوں ہونا۔ القائِمُ (فا) ج قُوَّمٌ و قُیَّمٌ و قُوَّامٌ و قُیَّامٌ و قِیَمٌ و قِیَامٌ (فا) قائمُ المَاءِ: واٹروکس۔ القائِم مقام ج قُوَّامُ المَقَامَات ــ و قائِمٌ مقامُوْنَ عند ارباب السیاسة: نائب۔ القائِمةُ ج قائِمَاتٌ و قَوَائِمُ: القائم کا مونث۔ قائمة الدابة: جانور کی اگلی یا پچھلی ٹانگ۔ قائمةُ الخُوَانِ او السَّرِیْرِ: دستر خواں یا تخت کا پایہ۔ القَامَةُ من الانسان ج قَامَاتٌ و قِیَمٌ: قد و قامت۔ ــــ ج قِیَمٌ: چرخی مع سامان کہا جاتا ہے۔ اِسْتَقَوْا عَلَى القَامَةِ: انہوں نے چرخی پر پانی کھینچا۔ القَوْمُ ج قِیْمَانٌ: دشمن لوگ۔ القَوْمَةُ (مص): قَامَ سے اسم مرہ: رکوع اور سجدہ کے درمیان قیام، قامة الانسان: انسان کی قامت۔ القُوَامُ: چوپایہ کے پاؤں یا ٹانگوں میں لگنے والی ایک بیماری۔ القَوَامُ: اعتدال، عدل۔ قَوَامُ الاِنْسَان: قد و قامت۔ القِوَامُ: سیدھا، کہا جاتا ہے۔ رُمْحٌ قِوَامٌ: سیدھا نیزہ۔ القَوَّامُ ج قَوَّامُوْنَ: اچھے قد و قامت والا۔ قَوْمِیَّةُ الانسان و قُوْمِیَّتُہٗ: قد و قامت القَوِیْمُ ج قِیَامٌ: اچھے قد و قامت والا۔ معتدل القِیَامَةُ: موت کے بعد اٹھنا۔ ــ یَوْمُ القِیٰمَةِ: قبروں سے اٹھنے کا دن۔ القِیْمَةُ ج قِیَمٌ: قام سے اسم نوع۔ ــــ قِیْمَةُ الاِنْسَان: انسانی قامت۔ اَمْرٌ قَیِّمٌ: سیدھا معاملہ۔ الدِّیَانَةُ القَیِّمَةُ: سیدھا دین، راست بازی کہا جاتا ہے۔ ذلك دینُ القَیِّمَةِ: بمعنی ذلك دینُ الامةِ القَیِّمة: یہ کجی امت کا دین ہے الْاَقْوَمُ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے فُلَانٌ اَقْوَمُ کَلَامًا مِنْ فُلَانٍ: فلاں بنسبت فلاں کے زیادہ سیدھی سادھی گفتگو کرنے والا ہے۔ المَقَامُ ج مَقَامَاتٌ: کھڑے ہونے کی جگہ، المِقْوَمُ: ہل کا دستہ۔ المُقِیْمُ (فا): کہا جاتا ہے۔ هٰذَا اَمْرٌ مُقِیْمٌ مُقْعِدٌ: یہ معاملہ پریشان کن ہے۔

۲۔ قَامَ یَقُوْمُ قَوْمًا و قَوْمَةً و قِیَامًا و قَامَةً بالامر: کا انتظام کرنا، کہا جاتا ہے قَامَ بِیْ وقَعَدَ: یعنی اس نے میرے متعلق بری خبریں پھیلائیں۔ ــــ الحقُ: حق ظاہر اور ثابت ہونا۔ ــ اهلہ: اہل وعیال کی ضروریات کو پورا کرنا۔ ــ علی الامر: کی نگہبانی کرنا، پر مداومت کرنا۔ ــــ ت الصلوٰةُ: نماز شروع ہو گئی۔ ــــ فی الصلوٰةِ: کو شروع کرنا، کہا جاتا ہے۔ قَامَ یَفْعَلُ کَذَا: یعنی ایسا کرنے لگا۔ قَوَّمَ الشیْءَ: کو سیدھا کرنا اور اسی سے تَقْوِیْمُ الْبُلْدَان: ہے جس کا معنی ہے شہروں کا طول وعرض بیان کرنا۔ اَقَامَ اِقَامَةً و قَامَةً الشیْءَ: کی مداومت کرنا۔ ــــ بالمکان: میں رہنا، کو وطن بنا لینا۔ الحقَّ: حق ظاہر کرنا۔ ــــ للصلوٰة: اقامت کہنا۔ ــــ الصلوٰةَ: کامل طریقہ سے نماز ادا کرنا۔ تَقَوَّمَ الشیْءُ: سیدھا ہونا، کہا جاتا ہے۔ قَوَّمْتُہٗ فَتَقَوَّمَ: میں نے اسے سیدھا کیا تو وہ سیدھا ہو گیا۔ قَائِمُ السَّیْفِ: تلوار کا قبضہ۔ القَائِمَةُ: کتاب کا ورق۔ قَائِمَةُ السَّیْفِ: تلوار کا قبضہ۔ العَیْنُ القَائِمَةُ: ایسی آنکھ جس کی بینائی زائل ہو چکی ہو اور ڈھیلا اپنی جگہ پر قائم ہو۔ القَامَةُ (مص) ج قَامَاتٌ و قِیَمٌ: لوگوں کی جماعت۔ القَوْمُ: کسی جگہ میں اقامت کرنا، ارادہ۔ القَوْمُ: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ــ ج اَقْوَامٌ و اَقَاوِمُ و اَقَائِمُ و اَقَاوِیْمُ: لوگوں کی جماعت۔ قَوْمُ الرَّجُلِ: قریبی رشتہ دار جو ایک دادا میں شریک ہوں۔ القَوْمِیُّ: جس کی طرف قوم کی نسبت ہو۔ قومی القَوْمِیَّةُ: سیاسی و اجتماعی اصول جس کی رو سے اپنی قوم کے معاملات کو ترجیح دی ہوتی ہے۔ قومیت، قومی جذبہ، قوم پرستی قَوْمِیَّةُ الامرِ: معاملہ کی درستگی۔ القَوَامُ: گزارا لائق خوراک۔ القِوَامُ: گذارہ لائق خوراک۔ قِوَامُ الامْرِ و قِیَامُہٗ: مایہ درستگی، جس سے کسی چیز کا قیام ہو کہا جاتا ہے۔ هُوَ قِوَامُ اَهْلِہٖ و قِیَامُهُمْ: وہ اپنے اہل وعیال کے لئے سہارا ہے۔ القَوَّامُ ج قَوَّامُوْنَ: امور کا منتظم، اچھی نگرانی کرنے والا، امیر۔ القَیُّوْمُ و القَیَّامُ: وہ ذات جو ابدی اور قائم بالذات ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ القَیِّمُ علی الامر: مونث قَیِّمَةٌ: متولی منتظم۔ قَیِّمُ المَرْأَةِ: شوہر۔ الاِقَامَةُ ج اِقَامَاتٌ: اقام سے مصدر ہے، کہا جاتا ہے۔ طَوٰی بِسَاطَ الاِقَامَةِ: یعنی کوچ کیا۔ اِقَامَةُ الجُنْدِیِّ: فوجی کی ڈیوٹی۔ التَّقْوِیْمُ (مص): جنتری۔ ــــ الرومی او الیولیوسی: سال کبیسہ والی جنتری جس میں فروری کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور سال چار پر پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ ــــ

الهجری: بارہ قمری مہینوں کے سال والی جنتری جو ۳۵۴ شمسی دنوں کا ہوتا ہے اور بیسہ سالوں میں ۳۵۵ شمسی دنوں کا۔ الغریغوری: گری گورین کلنڈر، جس میں صدیوں والے سال جیسے ۱۶۰۰ اور ۱۷۰۰ اس وقت تک سال کبیسہ شمار نہیں کئے جاتے جب تک وہ ۴۰۰ پر پورا پورا تقسیم نہ ہوں۔ــــ تَقْوِیْمُ البُلْدَان: ممالک کے طول و عرض اور زمین کے خراج کا بیان۔ المَقَامُ ج مَقَامَاتٌ: مرتبہ ــــ و المُقَامُ: کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کی جگہ اور وقت المُقَامة: کھڑا ہونا، قیام کرنا، جائے قیام، لوگوں کی جماعت۔ المَقَامَةُ ج مَقَامَاتٌ: سرداری، مجلس، لوگوں کی جماعت، خطبہ یا وعظ یا روایت جو لوگوں کے مجمع میں بیان کی جائے۔ اسی سے ہے۔ **مقامات حریری۔**

۳- قَام يَقُوْمُ قَوْمًا و قَوْمَةً و قِيَامًا و قَامَةً الماءُ: **پانی کا نکلنے کی جگہ نہ پانے کی وجہ سے ٹھہر جانا، جامد ہونا۔** ت به دابَتُهُ: کے **جانور کا تھک جانا** ــــ مِيْزَانُ النَّهَارِ: **دوپہر ہونا۔**

۴- قَامَ يَقُوْمُ قَوْمًا و قَوْمَةً و قِيَامًا و قَامَةً ت السوقُ: بازار کا رائج ہونا۔ ــــ المتاعُ بكذا: کی قیمت کے برابر ہونا۔ قَوَّمَ المتاعَ: کی قیمت لگانا۔ قَاوَمَ قِوَامًا و مُقَاوَمَةً الشيئَ: کا قائمقام ہونا، کہا جاتا ہے۔ قَاوَمَ الثَّمَنُ المَتَاعَ: یعنی قیمت کا سامان کا قائمقام ہونا۔ اَقَامَ اِقَامةً و قَامَةً السوق: بازار لگانا۔ تَقَاوَمَ القومُ الشيئ بينهم: آپس میں چیز کی قیمت کا اندازہ لگانا۔ اِسْتَقَامَ اِسْتَقَامَةً المتاعَ: یعنی سامان کی قیمت لگانا۔ القَائِمَةُ (ت): حساب کھاتہ۔ القِيْمَةُ ج قِيَمٌ: قیمت القِيْمِيُّ: قیمت کی طرف منسوب۔ القَيِّمُ: ہر قیمت والی چیز، کہا جاتا ہے۔ كِتَابٌ قَيِّمٌ: قیمتی کتاب۔ مَقَامُ او مَخْرَجُ الكسر (ع ح): نسب نما (کسی کسر میں لائن کے نیچے کا عدد) چنانچہ ۳/۴ میں ۴ نسب نما ہے۔

۵- قَامَ يَقُوْمُ قَوْمًا و قَوْمَةً و قِيَامًا و قَامَةً به ظَهْرُه: کو دردمند کرنا۔ ــــ عليٰ غريمه: قرضدار سے مطالبہ کرنا۔ اِقْتَامَ اِقْتِيَامًا انفهُ کی ناک کاٹنا۔

۶- القُوْمَانْدُسُ: بحری فوجی کمانڈو (لاطینی)۔

قَامَ ــ قَوْمَةً و قِيَامًا: **اٹھنا، کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا** (آوازوں، شور، ہوا) **کا اٹھنا**۔ قام عليه: کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، کے خلاف بغاوت کرنا، پر حملہ کرنا قَام لَهُ: کے اعزاز میں اٹھنا۔ ــ: (مردے) کا زندہ ہونا، جی اٹھنا، چڑھنا، روانہ ہونا (ٹرین کا) روانہ ہونا۔ اِلیٰ: کی طرف جانا۔ ــ: کھڑا رہنا، ہونا، موجود ہونا، واقع ہونا۔ ب: پر مشتمل ہونا۔ ــ علی: پر مبنی ہونا، پر بنا ہونا، کتاب وغیرہ کا) اپنے اصلی موضوع کے لئے ایک مشکل رکھنا قام يَفْعَلُ: کچھ کرنا شروع کرنا۔ ــ ب: کو اپنا شغل بنانا، میں مصروف ہونا، سے دلچسپی لینا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑا اٹھانا، کو کرنا، بجالانا، عمل میں لانا، انجام دینا پورا کرنا، سے کام لینا، کے لئے جدوجہد کرنا، کی تائید کرنا، کی حمایت کرنا، وکالت کرنا، کی تصدیق کرنا۔ ــ علی: کا نگران ہونا، کا انتظام کرنا، کو چلانا، کی دیکھ بھال کرنا، کو محفوظ رکھنا، کی نگہداشت کرنا، کا خیال رکھنا، پر توجہ کرنا، کی نگہبانی کرنا۔ ــ ب: کی قیمت کا ہونا۔ قام البرهانُ علی: کے لئے ثبوت مہیا کیا گیا تھا۔ قام بِأَعْبَاءِ الحكم: حکومت کے بوجھ اپنے ذمے لینا، اقتدار سنبھالنا، قام بأَوَدِه: کی ضروریات کا اہتمام کرنا، کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا۔ قام بِدَوْر: کردار ادا کرنا۔ قام بِشَأْنِه: کی دیکھ بھال کرنا، کو اپنے زیر حمایت لینا، قام بِالمَصَارِيف: اخراجات ادا کرنا، خرچ چکانا۔ قام بالواجب عليه: اپنا فرض ادا کرنا۔ قام بِوَعْدِه: اپنا قول نبھانا۔ قَامَتِ الحربُ علی ساق: جنگ سخت تھی یا سخت ہوگئی، جنگ بھڑک اٹھی، جنگ شروع ہوگئی۔ قَامَ الحقُّ: حق واضح تھا یا واضح ہوگیا۔ قامت الصلاةُ: نماز کا وقت ہوگیا۔ قام علی قَدَمٍ و ساق: مکمل طور پر موثر ہو جانا، ہو رہا ہونا، پورے زور و شور سے جاری ہونا۔ قاموا قومةَ رجلٍ واحدٍ: وہ ایک آدمی کی طرح اٹھے۔ لم تَقُمْ لَهُ قائمةٌ بَعدُ: وہ مزاحمت کرنے کے قابل نہ رہا، وہ قریب قریب ختم ہوگیا۔ لا تقوم للاعداء قائمة: دشمنوں کے خلاف کوئی مزاحم یا مدافعت نہیں ہے۔ قامَتْ قِيامتُهُ: جوش میں آنا، ناراض ہونا، خشمناک ہونا، برافروختہ ہونا، غصہ میں بھرا ہوا ہونا، قامت قيامته ل (من): سے پریشان ہو جانا، سے صدمہ پہنچنا، پر شدت سے مضطرب ہونا، قَامَ فی وَجْهِه: کی مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، کے مقابلہ میں آنا۔ قَامَ مقامَهُ: کی جگہ لینا، کی قائمقامی کرنا، کسی کی جگہ قائم مقام ہونا، کی حیثیت سے کام کرنا، کی جگہ کام کرنا، کی جگہ لینا۔ قَامَ منه مقامَهُ: کسی کی جگہ لینا۔ قَامَ و قَعَدَ: سخت پریشانی کی حالت میں ہونا، بری طرح پریشان ہونا، بہت مضطرب ہونا قام وقعد ل: سے سخت دہشت زدہ ہونا۔ لاقَامَ ولاقَعَدَ: پائیدار نہ ہونا، دیرپا نہ ہونا، لايُقَوَّمُ بِثَمَنٍ: بے انداز، بہت ہی زیادہ، بے حد، انمول، لايُقَاوَمُ: ناقابل مزاحمت اَقَامَ اَوَدَهُ: کی ضروریات کا اہتمام کرنا، وقت ضرورت کی مدد کرنا، أَقَامَ البرهانَ الجلّيَ علی: کے لئے واضح ثبوت مہیا کرنا، کو واضح طور پر ثابت کرنا اقام الحُجَّةَ: احتجاج کرنا، اقام حسابًا ل: کو حساب پیش کرنا، کو اپنا معاملہ بنانا، اقام الدليلَ علی ان: ثابت کرنا کہ اقام الشعائر الدينية: عبادتی رسومات ادا کرنا۔ اقام الصلاةَ: نماز ادا کرنا، أَقام العدلَ: انصاف کرنا۔ قانون سے کام لینا۔ اَقَامَ القُدَّاسَ علی: کے لئے دعا کرنا۔ اَقَامَ قضية (او دعوی) علی: کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا، پر مقدمہ کرنا۔ اَقَامَ لَهُ وَزْنًا: کو بہت اہمیت دینا، کو سہارا جاننا، لايُقَامُ لَهُ وزنٌ: ناقابل ذکر ہونا، اہم نہ ہونا۔ أَقَامَ مُبارَاةً: مقابلہ کرنا۔ أَقَامَهُ مَقَامَهُ: کو کسی دوسری جگہ لانا۔ اَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الحامی: محافظ بننا۔ اَقَامَهُ و اَقْعَدَه: کو سخت پریشان کرنا، کو سخت جوش کی حالت میں ڈالنا، اَقَامَ الدنيا و اَقْعَدَها: زمین اور آسمان ہلا دینا، ہلچل پیدا کرنا، ہیجان یا سنسنی پیدا کرنا۔ لايُقِيمُ له قيامةً: وہ اپنی طرف سے کسی مزاحمت یا مدافعت کی پیش بندی کرتا ہے۔ استقام له الكلامُ فی: اس نے کے بارے میں سچی بات بتائی۔ اس نے کے متعلق عقل کی بات کی۔ عالِمُ الاقوام: عالم اقوام، ماہر نسلیات، سيقول قوم اِنَّ: لوگ کہیں گے کہ۔ قَوْمَة: اٹھنا، بغاوت۔ قَوْمِی: قومی، نسلی، قوميات: قومی خصوصیات جمع قَوْمِيَة: فرانسیسی شمالی افریقہ کے مقامی قبائل سے بھرتی کئے ہوئے مقامی گھڑسوار رسالہ کا رکن۔ قَوْمِيَة: قوم پرستی، وطن پرستی، قومیت قَيِّم: قیمتی، گراں بہا، سیدھا، محافظ، مہتمم، نگران، ناظم القَيِّمة: سچا دین كتب قَيِّمة: گراں بہا یا قیمتی کتابیں قِيْمَة جمع قِيَم: قیمت، قدر، مقدار، ذو قيمة: قیمتی، گراں بہا لاقيمة له: بیکار، ناکارہ، فضول۔ قِيمی: قیمت کے متعلق، قیمت کے معیار کا قیمت کے مطابق، ناقابل تبادلہ، مال قيمی: ناقابل تبادلہ اشیاء۔ قِوامُ اهْلِه: گھر کا خرچ چلانے والا قِوامة: سرپرستی۔ قَوِيم: سیدھا، کھڑا، صحیح، مناسب، مستند، معتبر، سچا (دین)، مضبوط، ٹھوس اِلی قيام الساعة: یوم آخرت تک، ہمیشہ کے لئے القَيُّوم: خدائے لم یزل۔ اَقْوَم: زیادہ سیدھا، زیادہ صحیح، زیادہ مضبوط، زیادہ مناسب، زیادہ موزوں التقويم الجريجوری: گری گورین کلینڈر۔ تقويم زمنی: تاریخ نگاری، تاریخ۔ علم تقويم البلدان: جغرافیہ مُقَاوَمَة جوية: ہوائی جہازوں کے ذریعے دفاع۔ مقاوَمة سَلْبِيَة: مقاومت

مجہول۔ دون مقاومة: بغیر مزاحمت، مقابلہ کے بغیر۔ مَحَلُ الاقامة: رہائش گاہ۔ قائمٌ بالاعمال المُفَوَّضیة اور قائمٌ بالاعمال: مدارالمہام، ناظم الامور Charge daffaires۔ قائمٌ برأسه، قائمٌ بذاته، قائم الذات و قائم بنفسه: آزاد، قائم بالذات، خودموجود۔ فی قائم حیاتِه: کی زندگی کے دوران قائم الزاویة: مستطیل، زاویہ قائمہ کا، الزاویة القائمة: زاویہ قائمہ۔ قائمہ مقام: ضلعی صدر، لیفٹیننٹ کرنل، بحری کمانڈر۔ قائمقامیة: قائم مقام کی سربراہی میں انتظامی ضلع۔ قائمۃ جمع قوائم: ستون جمع قوائم و قائمات: فہرست، بدلی جدول، رجسٹر، اشاریہ، نقشہ، جدول، گوشوارہ، بچک، بل، فردحساب۔ قائمة الطعام: مینو، طعام نامہ۔ مُقَوِّم: تخمینہ لگانے والا، تشخیص کنندہ، قیمت کا اندازہ لگانے والا جمع مُقَوِّمات: بنانے والا عنصر، ترکیبی عنصر، اے سی بجلی سے ڈی سی بجلی حاصل کرنے کا ایک آلہ Rectifier، ریڈیو سیٹ میں متبادلہ رووں کی تصحیح کرنے والا آلہ Detector، جمع مُقَوِّمات: عناصر، ضروری اجزاء، ترکیبی اجزاء، تشکیلی قوت یا علت عاملہ، بنیادی عوامل، بنیادی اصول مقومات الحیاة: گزر اوقات کے وسائل، دنیاوی جائیداد، دولت، مقومات الجمال: سنگار کا سامان مقومات العُمران: تمدنی عوامل مُقَوَّمات: قیمتی جائیداد، قیمتی چیزیں، اقدار، اثاثہ، املاک۔ مُقاوِم: مزاحمت کرنے والا، مقاومت کرنے والا، مدافعت کرنے والا، ناراضامند، مخالف، حریف، مقابل، دشمن، مدمقابل، مقیمٌ بواجباته: فرض شناس، ایماندار، وفادار، مقیم عام: ریذیڈنٹ جنرل مُقِیمی: رہائشی۔ مقیمیة: ریذیڈنسی، قومسیر، کمشنر، (فرانسیسی لفظ) قومندان: کمانڈر، کمانڈنٹ۔

قون: تَقَوَّنَ الرجُلُ: زبان درازی کرنا۔ القَان (ن): ایک درخت جس سے کمانیں بناتے ہیں۔ القَاوُونُ (ن): ککڑی کی ایک قسم۔ القُونَةُ ج قُونٌ: لوہے یا تانبے کا ٹکڑا جس سے برتن کو جوڑتے ہیں۔ —— عندالعامة: ایقونه: اس کی وضاحت کیلئے لفظ ایقونة دیکھیں۔ (سریانیہ)۔

قوه: ۱۔ قَوَّهَ تقویها الرجُلُ: چلانا۔ تقاوَه الرجُلان: نشان مقررہ سے ایک دوسرے کو چلا کر پہنچانا۔

۲۔ قَوَّهَ تَقوِیهًا الصیدَ: شکار کو گھیر کر کسی جگہ لانا اِستَقوَهَ هُ: سے شکار کو گھیر کر کسی جگہ لانے کیلئے کہنا۔

۳۔ ایقَهَ: اطاعت کرنا، سمجھنا، کہا جاتا ہے۔ ایقَهْ لِهٰذا: یعنی اس کو سمجھو۔ —— واِستَیقَهَ: اطاعت کرنا اور یہ

دونوں اَوْقَهَ اور اِستَوقَهَ کے مقلوب صیغے ہیں۔ القَاهُ: اطاعت، کہا جاتا ہے مَالَكَ عَلَیَّ قَاهٌ: تجھے مجھ پر کوئی قدرت نہیں۔

۴۔ القَاهُ: عزت، خوش حال زندگی۔ القَاهِیُ: خوش حال زندگی والا۔ القُوهَة: باسی دودھ۔

☆ قُونَة جمع قُوَن: بت، مجسمہ، تصویر، مذہبی مجسمہ، تصویر اولیاء، صنم، مورتی، قونیة: کونیا (اناطولیہ کا ایک شہر)

قوی: ۱۔ قَوِیَ یَقوٰی قُوَّةً: توانا ہونا۔ — علی الامر: کی طاقت رکھنا۔ قَوَّی الرجُلَ او الشیئَ: کو مضبوط کرنا۔ قَاوَی مُقاوَاةً الرجُلَ: پر طاقت میں غالب ہونا، تم کہو گے۔ قَاوَانِی فَقَوَیتُهُ: اس نے مجھ سے قوت میں مقابلہ کیا تو میں غالب ہو گیا۔ اَقْوَی اِقْوَاءً: مضبوط جانور والا ہونا۔ —— الحبلَ: رسی کو بجا موٹا بٹنا۔ —— الشِّعْرَ: اشعار کے قوافی کو اعراب میں مختلف کرنا۔ تَقَوَّی: قوی ہونا، مضبوط ہونا۔ تَقَاوَی تَقَاوِیًا القومُ المتاعَ بینهم: آپس میں بڑھاتے بڑھاتے قیمت انتہائی قیمت پر پہنچنا۔ اِقْتَوَی اِقْتِوَاءً الرجُلُ: مضبوط اور قوی ہونا۔ — المتاعَ: کی قیمت بڑھ جانے کے بعد خریدنا۔ —— الشیئَ: کو اپنے لئے خاص کرنا۔ اِستَقوَی اِستِقْوَاءً: قوی ہونا۔ القُوَّةُ ج قُوَّاتٌ وقُوًی وقِوًی: زور۔ — ج قُوًی: رسی کی لڑی، توانائی۔ قوة عددٍ ما: کسی عدد کو اسی سے ضرب دینے کا حاصل، مثلاً ۷ کا دوسرا حاصل ضرب ۷×۷=۴۹ ہے اور ۷۲ لکھا جاتا ہے۔ تیسرا حاصل ضرب ۵×۵×۵=۱۲۵ ہے اور ۵۳ لکھا جاتا ہے۔ القُوَی: عقل۔ القَوِیُّ ج اَقْوِیَاءُ: مضبوط، زوردار۔ المُقَوِّیُ (فا): الفَرَسُ المُقَوِّیُ: مضبوط گھوڑا۔ المُقَوِّی: مقوّا، دفتی۔

۲۔ قَوِیَ یَقْوَی قِیًّا و قَوَایَةً ت الدارُ: گھر کا خالی ہونا۔ — قَوِیَ: بہت بھوکا ہونا۔ — المطرُ: بارش بند ہونا۔ اَقْوَی اِقْوَاءً: چٹیل میدان میں اترنا، محتاج ہونا، مالدار ہونا۔ — ت الدارُ: رہنے والوں سے خالی ہونا۔ — القومُ: قوم کا توشہ ختم ہونا۔ — الرجُلُ: خالی ہاتھ آنا۔ — البقعة: کو خالی کرنا۔ تَقَاوَی تَقَاوِیًا: بھوکے رات بسر کرنا۔ — القومُ الدلوَ: سب کا ڈول کے منہ پر منہ لگا کر پینا۔ بَلَدٌ قَاوٍ: خالی شہر۔ القَاوِیَةُ: القَاوِی کا مونث، انڈا، کم بارش کا سال۔ اِبِلٌ قَاوِیَاتٌ: بھوکے اونٹ۔ القَوَاءُ ج اَقْوَاءٌ: خالی اور چٹیل میدان، بغیر بارش کے زمین، بھوک کہا جاتا ہے۔ بَاتَ القَوَاءَ: اس نے بھوکے رات بسر کی۔ منزلٌ قَوَاءٌ: منزل جس میں کوئی انیس نہ ہو۔ القَوَاءُ

جمع اَقْوَاءٌ: خالی زمین اور چٹیل میدان القَوَی: خالی زمین، چٹیل میدان، بھوک کہا جاتا ہے بات القَوَی: اس نے بھوکے رات گزاری ہے۔ القَوَایَةُ: بغیر بارش کے زمین۔ —— والقِیُّ: خالی اور چٹیل میدان۔ القُوَیُّ: قَاوٍ کی تصغیر چوزہ۔ التَقَاوِیُ (مص) تَقَاوِی الامطارُ: بارش کی قلت۔ بَلَدٌ مُقْوٍ: شہر جو بارش سے خالی ہو۔

۳۔ قَاوَی مُقَاوَاةً: کو دینا۔ اِقْتَوَی اِقْتِوَاءً شیئاً بشیئٍ: کو سے تبدیل کرنا۔ القَاوِیُ: پکڑنے والا۔ لینے والا

۴۔ اِقْتَوَی اِقْتِوَاء علی فلان: پر عتاب کرنا۔

☆ قُوَات: مسلح افواج، فوجی (جمع) بالقُوة: زبردستی، جبلی طور پر، عملاً، درحقیقت بقوة وجلاء: اونچی اور واضح آواز سے مُنسَرِق القوة: کمزور کیا ہوا، تھکا ہوا، ناتواں، مضمحل قوة احتیاطیة: ریزرو فوج، فاضل فوج۔ قوةُ الاذاعة نشریاتی قوت۔ قوة الارادة: قوت ارادی، قوة الاستمرار: مادہ کا جمود قوة حافظة: یادداشت، حافظہ۔ قوة الحدود: سرحدی پہرہ دار۔ قوة خفیفة: آزادانہ حرکت کرنے والی ہلکی فوج۔ قوة دافعة کهربائیة EMF برق زا طاقت۔ قوة دفاعیة: کامل دفاعی قوت۔ قوة سطحیة: سطحی مہم جو دستہ (بحریہ) قوة الشراء: قوت خرید۔ قوة الصوت: آواز کا حجم، یا آواز کی گونج، زور، شدت (ریڈیو) قوة عاقِلة: عقلی، ذہنی قوت، ادراک کی صلاحیت، قوة عراك: لڑاکا فوج۔ القوة علی العمل: کام کرنے کی طاقت، پیداواری وسعت۔ قوة القانون: قانونی طاقت قوة قاهرة: فاتح فوج۔ قوة مرکزیة: مرکزی طاقت۔ قوة مرکزیة جاذبة: مرکز مائل قوت۔ قوة مرکزیة طاردة: مرکز گریز قوت۔ قوة مُضادةٌ للطائرات: طیارہ شکن دفاع۔ قوة معنویة: اخلاقی قوت، قوت مقابلہ، حوصلہ، ہمت، جوش، ولولہ۔ قوة النَبْت: نمو کی صلاحیت قوة نظامیة: باقاعدہ فوج۔ قوات بحریة و بریة و جوّیة: بحری، بری اور ہوائی افواج اَلعَابُ القُوَی: ورزشیں، کسرتیں، کود پھاند، کھیل کود۔ قَوِیُّ العارضة: پرجوش، زود فہم، تَقَاوِی: بیج (بونے کیلئے) ورق مُقَوّی: گتا، ودفتی گتا۔

قیأ: قَاءَ یَقِیئُ قَیْئًا ما اَکَلَهُ: قے کرنا، کھایا پیا الٹی کر دینا صفت قَائِیٌ۔ — ت الطعنةُ الدمَ: نیزہ کا خون نکالنا، کہا جاتا ہے۔ قَاءَتِ الاَرضُ الکَمْأَةَ: زمین کا سانپ کی چھتری کو اگانا اور قَاءَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ:

مرنا۔ قَيَّأ تَقْيِئَةً و اَقَاءَ اِقَاءَةً فلانًا ما اكله: کو قے کرانا۔ تَقَيَّأ تَقَيُّؤًا و اِسْتَقَاءَ اِسْتِقَاءَةً: بتکلف قے کرنا۔ القُيَاءُ: قے۔ القَيُوْءُ والقَيُوُّ: بہت قے کرنے والا۔ المُقَيِّئُ: قے آور دوا۔

قیت: القِيْتَارُ والقِيْتَارَةُ ج قَيَاتِيْرُ، والقِيثَارُ والقِيثَارَةُ ج قَيَاثِيْرُ (مو): سارنگی (یونانیہ)۔

قیح: قَاحَ يَقِيْحُ قَيْحًا و قَيَّحَ و اَقَاحَ و تَقَيَّحَ الجرحُ (طب): زخم کا پیپ والا ہونا یا اس سے پیپ بہنا۔ القَيْحُ: پیپ، پیپ جس میں خون کی آمیزش نہ ہو۔

○ مُقَيِّئ جمع مُقَيِّئات: قے آور دوا۔ الجَوْزُ المُقَيِّئ: کچلہ، فلوس ماہی۔

○ قِيثار جمع قَياتير و قِيثار و قيثارة جمع قَياثير: چھتارا، قدیم یونانی بربط، لائر

○ مُتَقَيِّح: پیپ دار، پیپ بھرا ہوا، پیپ آلودہ، پیپ خارج کرنے والا۔

قید: اُقْيِدَ الرَّجُلُ: بیڑی ڈالا جانا۔ قَيَّدَ تَقْيِيْدًا هُ: کو بیڑی ڈالنا، روکنا ـــ هُ بالاحسان: کو احسان مند بنانا ـــ الكتابَ: پر اعراب لگانا ـــ الخطَّ: پر نقطے اور اعراب لگانا ـــ الحسابَ: حساب لکھنا۔ الكاتبُ والمتكلمُ: کلام کی غرض اور معنی کو محدود و مقید کرنا۔ تَقَيَّدَ: بیڑی میں ہونا۔ القَيْدُ ج قُيُوْدٌ واَقْيَادٌ: جانور کے پاؤں میں باندھنے کی رسی وغیرہ، بطور استعارہ کہا جاتا ہے۔ فَرَسٌ قَيْدُ الاَوَابِدِ: تیز رفتار گھوڑا یعنی وہ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے وحشی جانوروں کے لئے قید کی مانند ہے کہ وہ ان کو بھاگنے سے روک دیتا ہے۔ قَيْدُ الاَسْنَانِ: مسوڑھا۔ القِيَادُ: رسی جس سے جانور کو کھینچا جائے۔ المُقَيَّدُ من الخيل والابل: سدھا ہوا تابعدار گھوڑا یا اونٹ۔ المُقَيَّدُ (مفع) ج مَقَايِيد: بندھا ہوا اونٹ وغیرہ، پازیب پہننے کی جگہ، گھوڑے کے پاؤں کو رسی باندھنے کی جگہ، اونٹ کو باندھنے اور چھوڑنے کی جگہ ـــ من الشعر: برخلاف مطلق۔ كِتَابٌ مُقَيَّدٌ: اعراب لگی ہوئی کتاب، کہا جاتا ہے اِمْرَأَةٌ مُقَيَّدَةُ الخِمَارِ: یعنی آزاد عورت۔

۲۔ القَيْدُ والقِيْدُ والقَادُ: اندازہ، کہا جاتا ہے بَيْنَهُمَا قَيْدُ رُمْحٍ اَوْ قَادُ رُمْحٍ: ان دونوں کے درمیان ایک نیزہ کی مقدار ہے۔

○ قيد الاسنان: مسوڑا، مسوڑے۔ قيد الانساب: شجرہ، شجرۂ نسب بعن غير قيد او رابط: غیر مشروط، بلاقید، بلاشرط۔ قَلَمُ القيودات: انسان کے انفرادی یا اجتماعی وجود کے نمایاں پہلوؤں (وفات اسراض وغیرہ) سے متعلق حقائق و اعداد و شمار درج کرنے کا دفتر، دفتر اندراج عام۔ بقيد الحياة يا على قيد الحياة: زندہ۔ قَيْدَ شَعْرَةٍ: بال برابر، لا..... قيدُ اَنْمُلَةٍ: نہ ایک انچ نہ ایک ذرہ سا بھی۔ على قيد ساعاتٍ مَعْدُوْدَةٍ: چند گھنٹوں میں على قيد عشرة كيلومتراتٍ: دس کلومیٹر کے فاصلہ پر عن قيد البصر: جو نظر آسکے۔ المشروع على قيد الدرس: منصوبہ زیر غور ہے۔ المسألة قيدَ البحث: مسئلہ کی تحقیق کی جارہی ہے۔ مسئلہ زیر تحقیق ہے۔ رسوم قيدية: بکنگ فیس، رجسٹریشن فیس۔ تَقْيِيْدُ النسل: برتھ کنٹرول رسم التَّقْيِيْد: رجسٹریشن فیس۔ غير مُقَيَّد: غیر محدود، بلاپابندی۔ مُلْكٌ مُقَيَّدٌ: آئینی ملوکیت، بادشاہی نظام والا ملک۔

قیر: قَيَّرَ الشيئَ: کسی چیز پر تارکول ملنا۔ القَارُ والقِيْرُ: سیاہ رنگ کی ایک چیز جس کو کشتی اور اونٹوں وغیرہ پر ملتے ہیں القَيَّارُ: کول تار، لک والا

۲۔ اِقْتَارَ الحديثَ: کی تحقیقات کرنا۔

۳۔ القَيُّوْرُ: غیر معروف النسب، کہا جاتا ہے هٰذَا اَقْيَرُ مِنْ ذَاكَ: یہ اس سے زیادہ کڑوا ہے۔

۴۔ القِيْرَاطُ: دیکھو مادہ ق رط۔

۵۔ القَيْرَوَانُ ج قَيْرَوَانَاتٌ: گھوڑوں کا گلہ، فوج کا بڑا حصہ، قافلہ۔

۶۔ القِيْرِيُوْسُ (ن): ایک پودا۔

○ قَيَّرَ ه: کولتار بچھانا، رال لگانا۔ قار و قير: کولتار، رال، قير، قِيراط جمع قراريط: انچ، اناج ناپنے کا پیمانہ جو ۳۲/۱ اقدح کے برابر ہوتا ہے، لمبائی چوڑائی ناپنے کا پیمانہ جو ۲۴/۱ افدان کے برابر ہے۔ سکہ کا پیمانہ جو ۱۶/۱ درہم کے برابر ہے۔ قيروان جمع قيروانات: کاروان، قافلہ۔ القيروان: شمالی مشرقی تونس کے شہر کا نام۔

قیس: اقَاسَ يَقِيْسُ قَيْسًا و قِيَاسًا: ناز سے چلنا۔

۲۔ قَاسَ يَقِيْسُ قَيْسًا و قِيَاسًا: بھوکا ہونا۔

۳۔ قَاسَ يَقِيْسُ قَيْسًا الطبيبُ قعر الجراحة: زخم کی گہرائی ناپنا صفت قَائِسٌ۔ الشيئ بغيره او على غيره: کے نمونہ پر اندازہ کرنا ـــ قَيْسًا وقِيَاسًا هُ: پر سابق ہونا۔ قَايَسَ قِيَاسًا و مُقَايَسَةً بين الامرين: کا اندازہ کرنا ـــ الشيئَ بكذا او الى كذا: کا اس سے اندازہ کرنا ـــ الرجلَ: سے اندازہ کرنے میں مقابلہ کرنا ـــ ه في كذا: پر میں سابق ہونا۔ اِقْتَاسَ الشيئَ بغيره وعليه واليه: کا دوسری چیز پر اندازہ کرنا۔ تَقَيَّسَ: قبیلہ قیس غیلان سے مشابہ ہونا۔ قبیلہ قیس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یا قبیلہ قیس کے حلیف ہونے یا پڑوسی ہونے یا ان سے ولاء کا تعلق ظاہر کرنا۔ اِنْقَاسَ: اندازہ ہونا۔ اِقْتَاسَ الشيئَ: کا اندازہ کرنا کہا جاتا ہے۔ هُوَ يَقْتَاسُ بِاَبِيْهِ: وہ اپنے باپ کی پیروی کرتا ہے۔ القَاسُ والقِيْسُ: اندازہ کہا جاتا ہے۔ بَيْنَهُمَا قَاسُ رُمْحٍ اَوْ قِيْسُ رُمْحٍ: ان دونوں کے درمیان ایک نیزہ کے مقدار کا فاصلہ ہے۔ القِيَاسُ (مص) في المنطق: مسائل پر مشتمل قول جن کے تسلیم کر لینے سے ایک دوسرا قول لازم ہو، جیسے ہم کہیں: عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہوتی ہے اس لئے عالم بھی حادث ہے کہا جاتا ہے هٰذَا قِيَاسُ ذَاكَ: یہ اس کے مشابہ ہے۔ القِيَاسِيُّ: مطابق قیاس۔ القَيَّاسُ: بہت قیاس کرنے والا۔ المِقْيَاسُ ج مَقَايِيْسُ: مقدار، جس سے اندازہ کیا جاسکے۔

۴۔ القَيْسَرِيُّ ج قَيَاسِرُ وقَيَاسِرَةٌ: بڑے من الابل: بڑا اونٹ۔ قَيْسَارِيَّةُ القيصرية کی تحریف ہے۔ القيصرية: یہ چند شہروں کا نام ہے جو قیاصرہ روم کے ناموں پر رکھے گئے تھے جیسے قیساریہ فلسطین، قیساریہ فلبس وغیرہ۔

قیص: اقَاصَ يَقِيْصُ قَيْصًا البطنُ: پیٹ کا حرکت کرنا۔

۲۔ قَاصَ يَقِيْصُ قَيْصًا السِّنُّ: دانت کا جڑ سے گرنا۔ تَقَيَّصَ الضرسُ: داڑھ کا گرنا یا لمبائی میں پھٹ جانا ـــ الحائطُ: دیوار کا جھکنا اور گرنا ـــ ت البئرُ: کنویں کا گرنا۔ اِنْقَاصَ الضرسُ: داڑھ کا گرنا یا لمبائی میں پھٹ جانا۔ الحائطُ: دیوار کا جھکنا اور گرنا۔ ت البئر: کنویں کا بہت پانی والا ہونا اور اس کی وجہ سے گرنے کے قریب ہونا۔

○ وقِس عليه: وغیرہ وغیرہ وقِس على هذا قياساً على ذلك: کی مطابقت میں، کے مطابق، کے مماثل۔ بالقِياس اِلى: کے مقابلہ میں على القياس: معمول کے مطابق بغير قياس: غلط، غیر منطقی۔ اخذ قياسَهُ: کا ناپ لینا متناسب القِياس: متناسب، میں برابر، حسب حال، مناسب، متناسب۔ قياس عالمي: عالمی ریکارڈ۔ قِياس فاسد: غلط استنباط، غلط نتیجہ، مغالطہ، غلط دلیل، باطل استدلال، سفسطہ، ایک مغالطہ آمیز دلیل، غیر صحیح استدلال کی ایک مثال۔ شريط القِياس: (کپڑے وغیرہ کا) گز۔ قِياسي: مماثل، مشابہ، نمونہ کے قاعدہ یا معیار کے موافق، منطقی، ہم مرتبہ، مد مقابل۔ رقم قِياسي: ریکارڈ (کھیلوں

میں)قِسِّیس: ناظر مساحت، مساحت ارض کا ماہر، تحت المقیاس: معیار سے کم، غیر معیاری۔ مقیاس التیّار: برقی روکو اکائیوں میں ناپنے کا آلہ۔ مقیاس الجهد: کیمیائی برق پیما۔ مقیاس الحرارة: تپش پیما۔ تھرمامیٹر۔ مقیاس الزلزال: زلزلہ پیما، مقیاس الکهربائیة: برق پیما۔ مقیاس الزوایا: پروٹیکٹر، زاویے ناپنے کا آلہ۔ مقیاس المغنطیسیة: مقناطیسیت پیما۔ مقیاس التنفس: تنفس پیما۔ مقاییس الاطوال: لمبائیوں کی پیمائش کا آلہ۔ مقاییس المسطحات: سطح کی پیمائش، مقاییس السطوح: بمعنی بالا۔ مقاییس الحجم: حجم کا ناپ مقاییس الکیل: خشک اور سیال اشیاء اور گنجائش کے پیمانے۔ مقاییس ابعاد۔ قیسری جمع قیاسر و قیاسرة: بڑا، کلاں، عظیم، جسیم، ضخیم۔ قیسریة: فلسطین کی قدیم بندرگاہ۔ قیساریة جمع قیاسیر: عوامی عمارتوں کا ایک وسیع بلاک جس میں سٹور، ورکشاپ، وغیرہ ہوں۔ مسقف مارکیٹ بازار قیشانی: عمدہ قسم کے چینی یا مٹی کے روغنی اور نقوش بنائے ہوئے ظروف، چینی کے برتن۔ قیصالة: ایک قسم کے تازہ پانی کی بڑی مچھلی، چاند مچھلی، کھارے پانی کی مچھلی جس کا جسم گول چپٹا اور چاند کا سا ہوتا ہے۔ قیصر جمع قیاصر و قیاصرة: قیصر، شہنشاہ العملیة القیصریة: پیٹ اور بچہ دانی کی دیواروں کو چاک کرکے بچہ کو نکالنے کا عمل جراحی۔ قیصریة: فلسطین کی ایک قدیم بندرگاہ کا نام۔ (نیز بمعنی قیساریة)

قیض: قاضَ یَقِیضُ قَیضًا الشیئَ: کو پھاڑنا۔۔۔ الشیئُ: پھٹنا۔۔۔ ت السنُّ: دانت کا ہلنا۔۔۔ البئرَ: کو کھودنا۔ قِیضَت البئرُ: کنویں کا بہت پانی والا ہونا۔ تقیّضَت البیضةُ: انڈے کا ٹوٹنا۔۔۔ الحائطُ: دیوار گرنا۔ انقاضَ الحائطُ: دیوار گرنا۔ ت الرکیةُ او السنُّ: کنویں یا دانت کا لمبائی میں پھٹنا۔ اِقتاضَ الشیئَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ القَیضُ (مص): انڈے کا خشک چھلکا۔ القیضة جمع قیض: ہڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ المَقِیضُ: انڈے کی جگہ۔ بیضةٌ مقیضةٌ: ٹوٹا ہوا انڈا۔ بئرٌ مقیضةٌ: بہت پانی والا کنواں۔

۱۔ قاضَ یَقِیضُ قَیضًا الشیئَ بالشیئِ: کو کی مانند بنانا۔۔۔ الشیئَ من الشیئِ: کو کے بدلہ میں لینا۔ قایضَ قِیاضًا و مُقایضةً فلانًا بکذا: سے کا مبادلہ کرنا اسی سے ہے بیع المقایضة تقیّضَ اباهُ: باپ کے مشابہ ہونا۔ تقایضَ تقایُضًا الرجلان: ایک دوسرے سے تبادلہ کرنا۔ القَیضُ والقِیاضُ: مساوی، برابر اور مماثل کہا جاتا ہے هذا قَیضٌ او قِیاضٌ لکذا: یہ اس کے برابر اور مماثل ہے۔ هما قیضان: وہ دونوں ہم مثل ہیں بیع المقایضة: سامان کے بدلے سامان کی بیع یعنی ایک چیز کا دوسری سے مبادلہ جو قیمت میں اس کے برابر ہو۔

۳۔ قیّضَ اللّٰهُ له کذا: کو کیلئے مقدر کرنا۔۔۔ اللّٰه فلانا لفلان: کے پاس لانا۔ تقیّضَ له کذا: کے لئے مقدر ہونا، سبب ہونا۔

۴۔ القَیضُ والقَیضةُ: بکری کی گدی پر داغ لگانے کا گرم کیا ہوا پتھر۔

قیط: القیطانُ واحد قیطانةٌ ج قیاطینُ: ریشم وغیرہ کے ریشوں سے بنی ہوئی رسیاں۔

قیظ: قاظَ یَقِیظُ قَیظًا الیومُ: سخت گرم ہونا۔۔۔ و قَیظَ و تقیّظَ القومُ بالمکان: میں گرمی کا زمانہ گزارنا۔ قیّظَ القومُ بالمکان: میں گرمی کا زمانہ گزارنے کے لئے قیام کرنا۔۔۔ ه الشیئُ: کا گرمی کے زمانہ کے لئے کافی ہونا۔ قُیِّظُوا: لوگوں پر گرمی کی بارش ہونا۔ قایظَ قیاظًا و مقایظةً ه: گرمی کا زمانہ کے ساتھ گزارنا، سے موسم گرما بھر کا معاملہ کرنا۔ القائظُ والقیظُ: سخت گرمی والا۔ یومٌ قائظٌ: سخت گرم دن قیظٌ قیّظٌ: سخت گرمی القَیظُ ج اَقیاظٌ و قُیوظٌ: گرمی کی شدت، گرمی کا موسم المقتظی: جو گرمی میں پیدا ہوا ہو۔ المَقاظُ والمَقیظُ والمَقیَظُ: گرمی کا زمانہ بسر کرنے کی جگہ۔ المقیظةُ (ن): گرمی تک سبز رہنے والی سبزی۔

قیع: قاعَ یَقیعُ قیعًا الخنزیرُ: سؤر کا آواز نکالنا۔

○ قیاض: تبادلہ مال، تبادلہ زر، مبادلہ۔ مقایضة: تبادلہ مال، تبادلہ زر، مبادلہ، تبادلہ مال یا زر کی تجارت، معاوضہ، مبادلہ کا کاروبار، تبادلہ اجناس کا سودا۔

○ قیطوس: قیطس سبع البحر: مجمع الکواکب وہیل جو فلکی خط استواء پر برج حمل اور برج حوت کے جنوب اور برج دلو اور النهر کے درمیان واقع ہے۔

○ قیظ النهار: دن کی گرمی مقیظ: گرمیوں کی رہائش گاہ قائظ: بہت گرم، موسم گرما کے وسط کا۔

قیف: قیّفَ و تقیّفَ اثرهُ: کو تلاش کرنا۔ القِیافةُ: کھوج، تلاش۔

قیق: اقاقَ یَقیقُ قیقَاتٍ الدجاجةُ: مرغی کا کڑکڑانا۔ القیقُ (ح): کبوتر کے برابر ایک پرندہ جس کے بازو خطط اور دم کالی ہوتی ہے اور بہت بولتا رہتا ہے۔ اور جس کو ابو زریق بھی کہتے ہیں۔

۲۔ القیق: بے وقوف۔ القیقاءةُ و القیقاءةُ ج قَواقٍ و قیاقٍ و قیقٌ: سخت زمین قیقیةُ البیضةِ: انڈے کے سخت چھلکے کے نیچے کا باریک چھلکا۔

۳۔ القیقبُ: وہ لوہا جس کے وسط میں وہ حصہ ہوتا ہے جو گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے۔ زین کا تسمہ۔۔۔ (ن) ایک درخت۔ جس کی متعدد قسمیں ہیں، بعض قسمیں باغوں اور عام جگہوں پر آرائش کے لئے لگائی جاتی ہیں ایک قسم کنڈا میں شکر کی ایک قسم پیدا کرتی ہے جو اس ملک میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ القیقبانُ: زین، ایک لکڑی جس سے زین بنائے جاتے ہیں۔

○ قیّفَ ۔۔ کے نقش قدم کی پیروی کرنا، کا بغور مطالعہ کرنا، جائزہ لینا، کی تحقیق کرنا۔۔۔ ه پر تبصرہ کرنا، تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا قیافة: نقش پا پر چلنا، بہروپ، بھیس۔

○ قیقب: میپل ایک درخت جس کی لکڑی فرنیچر، آلات موسیقی اور فرش بندی میں استعمال کی جاتی ہے، آرائشی سایہ دار درخت کے طور پر بھی اہم ہے۔

قیل: ۱۔ قالَ یَقیلُ قَیلًا و قائلةً (قیلولةً) و مقالًا و مقیلًا: دوپہر میں سونا۔۔۔ ه قیلًا: دوپہر کے وقت دودھ دوہنا اور پینا۔ قیّلَ ه: کو دوپہر میں پلانا۔ عوام کہتے ہیں۔ قیّلَ فلانٌ: جب وہ قیلولہ کرے اس سے اسم قیلولة ہے اقالَ اقالةً الابلَ: کو دوپہر میں پانی پلانا۔ تقیّلَ: دوپہر میں سونا۔۔۔ ت الابلُ: اونٹوں کا دوپہر میں پانی پینا القائلُ ج قُیَّلٌ و قُیّلٌ و قُیَّالٌ: دوپہر کو سونے والا۔ القائلة: قائل کا مونث، دوپہر۔۔۔ و القیلولة: دوپہر میں سونا، دوپہر میں لیٹنا اگرچہ نیند نہ آئے۔ القَیلُ: اونٹنی جس کو دوپہر میں دوہا جائے۔۔۔ و القَیُولُ: دودھ جو دوپہر میں پیا جائے۔ القَیلةُ و القَیُولةُ: اونٹنی جس کو دوپہر میں دوہا جائے۔ رجلٌ قیّالٌ: دوپہر کو دوہی جانے والی اونٹنی کا مالک دوحةٌ مقیالٌ: بڑا درخت جس کے نیچے بہت زیادہ لیٹا جائے۔ المَقیلُ (مص): قیلولہ کرنے کی جگہ، دوپہر کو سونا یا لیٹنا۔ المَقیَلُ: دودھ دوہنے کا بڑا برتن جس میں دوپہر کے وقت دوہا جائے۔

۲۔ قایلَ ه: کو معاوضہ میں دینا، کا تبادلہ کرنا۔ اقتالَ شیئا بشیئ: کو سے تبدیل کرنا۔

۳۔ اقالَ اقالةً اللّٰهُ عثرتك: کو گرنے سے اٹھانا، اس سے ہے الاقالة فی البیع جو بیع توڑنے کے معنی میں ہے درگزر کرنا۔۔۔ البیع: بیع توڑنا۔۔۔ ه من منصبه: کو اس کے منصب سے سبکدوش کرنا تقایلَ الرجلان البیع: بیع کو فسخ کرنا۔ استقالَ استقالةً ه عثرته: سے لغزش معاف کرنے کو کہنا۔۔۔ ه البیعَ:

سے بیع فسخ کرنے کو کہنا۔ ۔ من منصبه: منصب سے سبکدوشی کی درخواست کرنا۔ الاِقَالَةُ (مص): عقد فسخ کرنا، منصب سے سبکدوشی۔

۴۔ تَقَیَّلَ اباهُ: باپ کے مشابہ ہونا۔ القَیْلُ: حِمیرُ کا ایک بادشاہ جو قبیلہ کے پہلے بادشاہوں سے مشابہت رکھتا تھا۔ سردار

۵۔ تَقَیَّلَ الماءُ: پانی کا جمع ہونا۔

○ اقال اللہ عثرتک: اللہ تمہارا جرم معاف کرے۔ قَیْلُولَة: دوپہر کو یا قدرے پہلے کیا جانے والا آرام یا آنکھ جھپکی، دوپہر کو تھوڑی سے نیند، مَقِیل: آرام کرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ۔ استقلة: استعفیٰ ریٹائرمنٹ، مُسْتَقِیل: عہدہ سے مستعفی، ریٹائرڈ، برخواست شدہ، برطرف شدہ۔

○ قِیلَة مائیة: فتق آبی، نزول الماء: آب نزول جسم کے کیسوی جوف خصوصاً کیسہ فایہ میں خوناب کا ذخیرہ۔

قین: ا۔ قَانَ یَقِینُ قَیْناً الحدیدَ: لوہے کو برابر کرنا۔ الاناءَ: برتن کو درست کرنا۔ ۔ الشیئَ: کو جمع کرنا۔ ۔ ت المرأةُ المرأة: کا بناؤ سنگھار کرنا۔ ۔ اللّٰهُ فلاناً علی کذا: کو پر پیدا کرنا۔ قَانَ یَقِینُ قَیْناً وقِیَانَةً: لوہار ہونا۔ قَیَّنَ هُ: کو مزین کرنا۔ ۔ القِیَانَ: عورتوں کی تربیت کرنا اور ادب سکھانا صفت مُقَیِّنٌ۔ تَقَیَّنَ: مزین ہونا۔ النبتُ: اچھا ہونا۔ اِقْتَانَ اقتیاناً النبتُ: اچھا ہونا۔ ۔ الرجل: مزین ہونا۔ ۔ ت الروضة: باغ کا سرسبز و شاداب ہونا۔ القَیْنُ ج قُیُونٌ واَقْیَانٌ: لوہار، ہر کاریگر۔ ۔ ج قِیَانٌ: غلام۔ القَیْنَةُ: لونڈی، گانے والی۔ (گلوکارہ)۔ کنگھی چوٹی کرنے والی المُقَیِّنَةُ المُقَیِّنُ کا مونث، کنگھی چوٹی کرنے والی عورت۔

۲۔ القَانُ واحد القَانَةُ (ن): ایک درخت جس سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔ القَیْنَةُ ج قِیَانٌ: ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ۔

ك تلفظ الـكـاف: حروف تہجی کا بائیسواں حرف، یہ مہموسہ حروف میں سے ہے، حروف ابجد کے لحاظ سے یہ ۲۰ عدد کے قائم مقام ہے ا۔ یہ مخاطب اور مخاطبہ کے لئے ضمیر منصوب اور مجرور کے طور پر مستعمل ہوتا ہے جیسے ضَرَبَكَ وَكِتَابُكَ و ضَرَبَكِ و كِتَابُكِ و ضَرَبَكُمَا و كِتَابُكُمَا و ضَرَبَكُمْ و كِتَابُكُمْ و ضَرَبَكُنَّ و كِتَابُكُنَّ اور کبھی یہ حروف جار کے طور پر مستعمل ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ تشبیہ کے لئے ہوتا ہے جیسے زیدٌ کالاسد۔ کبھی تعلیل کے لئے جیسے اذکروا اللہ کما ھداکم: (اور اللہ کو یاد کرو کیونکہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے) اور تاکید کے لئے اس صورت میں یہ زائدہ ہوکر آتا ہے جیسے لیس کمثلہ شیءٌ: یعنی اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ ۳۔ اور کبھی یہ غیر حرف جار کی صورت میں استعمال ہوتا ہے اس صورت میں یہ خطاب کے معنی دیتا ہے۔ اس وقت یہ کبھی اسم اشارہ کے ساتھ مل کر آتا ہے جیسے ذالك اور تـلـك، کبھی یہ ضمیر منصوب منفصل کے ساتھ جیسے ایـاك اور ایاکما اور کبھی اسماء افعال کے ساتھ مل کر آتا ہے جیسے رویدك

○ كَ: جیسے، کی مانند، کی طرح، تقریباً، قریب قریب کی حیثیت سے۔ كَالْاَوَّلِ: پہلے کی طرح، جیسا کہ شروع میں، جیسا کہ آغاز سے۔ كَهٰـذَا: اتنا، ایسا۔ رجـل کھذا: ایسا آدمی، اس جیسا آدمی۔ هُمْ كَالْمُجْمِعِيْنَ عـلـی ذلك: وہ اس بارے میں تقریباً متفق، یکدل یا یک آواز ہیں، وہ عملاً اس پر متفق ہیں۔ انا كَمُسْلِمٍ: میں ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ كَـاَنَّ: جیسے، گویا۔ كَـاَنّی بھا: یہ ایسا ہے جیسے میں اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہ وہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ كَـذَا: ایسے، اس طرح وغیرہ وغیرہ، اتنا، اس قدر۔ كَـذَا و كَـذَا: فلاں فلاں، اتنا، اس قدر، ایسا ایسا، بِـمكـانٍ كذا و كذا: ایسی ایسی جگہ عُـمْـرُهٗ كذا سَـنَـوَاتٍ: اس کی عمر اتنے برس ہے۔ كَـذٰلِكَ: اس طرح، یوں، اس حد تک، اتنا، یکساں، برابر، اسی طرح، اسی طور پر، علی هذا القياس۔ كَمَا: جیسے، بھی، نیز، دوسری طرف بھی، یکساں، برابر، اسی طرح، اسی طور پر۔ كَـمَـا اَنَّ: معاملہ ایسا ہونے کی وجہ سے كَـمَـا لَـوْ كَـانَ حاضرًا: گویا وہ حاضر ہو۔ مـدينة الكاب: کیپ ٹاؤن (ایک شہر کا نام)۔

كأب: ا۔ كَـئِـبَ ـــ كَأْبًاو كَأْبَةً و كَآبَةً: غمزدہ ہونا، برا حال ہونا، غم سے شکستہ دل ہونا، صفت كَـئِـبٌ اور كَئِيْبٌ مجازاً کہا جاتا ہے، ارضٌ كئبة الوجه: یعنی سیاہی مائل زمین جس طرح غمگین آدمی کا چہرہ ہوتا ہے اَكْأَبَ الرجُلُ: غمگین ہونا۔ الرجُلَ: کو غمگین کرنا۔ اِكْـتَـأَبَ: غمگین ہونا۔ الـكَـأْبَـاء: سخت غم، اِمـرأةٌ كـأباء: سخت غمگین عورت، کہا جاتا ہے۔ مَا اَكْـأَبَهٗ: اس کا غم کس قدر زیادہ ہے۔ الْمُكْتَئِبُ: غمگین، کہا جاتا ہے "رمادٌ مُكتئِبُ اللون" یعنی سیاہی مائل راکھ۔

۲۔ اَكْأَبَ الرجلُ: ہلاکت میں پڑنا۔

○ كَئِبَ۔ كَأْبًا و كَأْبَةً و كَآبَةً على: کے بارے میں غمگین ہونا، مغموم ہونا، دل شکستہ ہونا، بددل، افسردہ، ناامید یا مایوس ہونا۔ ـــ ل: کی وجہ سے غمگین، مغموم، دل شکستہ، بددل، افسردہ، ناامید یا مایوس ہونا، سے یا کی وجہ سے پریشان ہونا۔ اَكْـأَبَ هٗ: کو افسردہ کرنا، مایوس کرنا، بددل کرنا، کی حوصلہ شکنی کرنا۔ اِكْـتَـأَبَ: اداس ہونا۔ ـــ علی یال: بمعنی كَـئِـبَ علی یال۔ كَـأْب، كَآبَة و اِكْتِئاب: غم، غمناکی، الم، رنج، دکھ، ملال، اندوہ، افسردگی، دل شکستگی، اداسی، حزن وملال۔ كَـئِـب و كَـئِـيـب: غمگین، مایوس، دل شکستہ، اداس، بددل، افسردہ، ناامید، غم زدہ، حزین، چڑچڑا، بدمزاج، سنجیدہ۔ مُـكْـتَـئِـب: غمگین، مایوس، دل شکستہ، اداس، بددل، افسردہ، ناامید، غم زدہ، چڑچڑا، سنجیدہ، سیاہ رنگ کا، بھیانک۔

○ كَابل: کیبل (Cable)

○ كَابُل: کابل (افغانستان کا دارالحکومت)۔ كـابُلی: کابلی، کابل کا، مہوگنی کی لکڑی (مہوگنی: ایک قسم کی سخت اور سرخ لکڑی جو امریکہ میں پائی جاتی ہے)۔

○ كـابين جمع كَبَـائِـن و كَبَـايِن: کیبن (Cabin) كَاتِدرَائِيَة: بڑا گرجا۔

○ كـاثُولِيكى: کیتھولک، کیتھولک (کیتھولک مذہب کا ایک رکن)۔

كأج: كَـأَجَ ـــ كَأْجًا الرجُلُ: کی حماقت زیادہ ہونا۔ الكـئاج: حماقت، نادانی۔

○ كاخِيَة جمع كَوَاخِن: خانساماں، منتظم رسد، مہتمم

كأد: كَـأَدَ ـ كَأْدًا: غمگین ہونا۔ تَـكَـأَّدَ و تكـاءَدَ الامرُ فلانًـا: پر معاملہ مشکل ہونا۔ ـــ الامر: کی مشقت اٹھانا، اِكْـوَأَدَّ الشـيـخُ: بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا۔ الـكـأداء: غم، سختی، پرہیز، تاریک رات، عقبةٌ كَـأْداءُ و كَوُدٌ: دشوار گزار گھاٹی جس پر چڑھنا سخت مشکل ہو۔ الـكُؤَداء: غمی یا تھکاوٹ کی وجہ سے ٹھنڈی سانس۔

○ كاد: جنس کا جو۔

○ كادهندى: کاجو کا درخت۔

○ عَقَبة كَأْداء یا عقبة كَؤُود: ناقابل تسخیر رکاوٹ۔

○ كـادِر: (فوجی یونٹ، حکومتی ایجنسی، کارپوریشن وغیرہ

کا) ڈھانچہ، عملہ، بنیادی تنظیم، بنیادی یونٹ، بنیادی بحری جہاز کا عملہ۔

○ کار جمع اکارات: کام، پیشہ۔ ابن کار: کاریگر، دستکار۔ ارباب الکارات: کاریگر، دستکار لوگ۔
عَدَاوَة الکار: پیشہ ورانہ حسد، تجارتی رقابت۔

○ کارتون: گتہ، جمع کارتونات: گتے کا ڈبہ۔

○ کارِدینال: کارڈینل: ستر رومن کیتھولک پادریوں میں سے ایک جو نئے پاپائے اعظم کے انتخاب کیلئے اکٹھے ہوتے ہیں۔

○ کارِیکاتورِیَة: کارٹون: کسی کے مضحکہ خیز پہلو کو اور نمایاں کرنے والا خاکہ یا ایسی نقل۔

○ کاز: (غاز کے معنی میں) گیس۔

○ کازِینو جمع کازینوهات: رقص گاہ، کاسینو۔

کاس: الکَیس ج اکْوُس واکْوُس و کَاسات و کِکاس: پیالہ (مونث) شراب کاس یا کاسُ الزهرة (ز): گل کا غلاف جو کبھی ایک دوسرے سے دور اور کبھی باہم ملے ہوئے اجزاء سے بنتا ہے۔ یہ کاسیات کہلاتے ہیں اور غالبًا یہ کاس پتوں کی طرح سبز ہوتا ہے۔ الکاسة: عام لوگ اس کو کاسة کہتے ہیں بمعنی پیالہ ہے۔ الکاسة: اس کے لئے "الفصلة" کا لفظ ملاحظہ فرمائیں۔ کاسةُ النورَن: ایک عمدہ خوشبودار پودا اصل گہوارہ شمالی امریکا ہے۔ خوبصورتی کے لئے کاشت کیا جاتا ہے۔ کاسات النور (ن): خوشبودار پودے۔

○ کَأس (مونث) جمع کُؤُوس و کِئَاس و کَاسات: پیالی، پیالہ، کپ، جام، گلاس، (پینے کا) ساغر، (عشائے ربانی کا) ساغر، پھول کا کٹورا، مند گل۔

○ کاساتا: Cassata اٹلی کی آئس کریم۔

کاص: کَاصَ ـ کَاصًا: کو ذلیل کرنا، مغلوب کرنا ـ الشیئَ: کو بہت کھانا یا پینا۔ محاورہ کاصْنا عِندَهُ مِنَ الطَّعَامِ مَاشِئنَا یعنی ہم نے اس کے پاس سے جو کچھ چاہا خوب کھایا۔

○ کاغِط: کاغذ (مراکشی لفظ)

○ کاف: حرف (ک)۔

○ کَافُور: کافور، کپور، کافور کا درخت، نیلی گوند۔

کاک: ا۔ کَأ کَأ۔ کَأکَاۃ: کمزور ہونا۔ بزدلی دکھانا، پیچھے ہٹنا۔ تکأکَأ: بزدلی دکھانا، پیچھے ہٹنا۔ ـ فی کلامہ: گفتگو میں عاجز آجانا، بات نہ کرسکنا۔ الکاکاء: زبردست بزدلی، بھاگتے وقت چور کی دوڑ۔
۲۔ تکأکأ القومُ: قوم کا اکٹھے ہوجانا۔
۳۔ المُتکَأکِئُ: پست قد۔

○ کاکیج و کاکنج: آلو بالو، شاہ دانہ (پھل)۔

کال: کَالَ ـ کَالًا و کِلَةً و کُوُولًا: قرض کے بدلے میں قرض خریدنا یا بیچنا جیسے تمہارا قرض کسی کے ذمہ ہو تو تم اپنے قرض کو اس کے قرض سے بیچ لو۔

○ کالو جمع کالوهات: گٹا، گوکھرو۔

○ کالون: گیلن۔ کالُون و کَیلُون جمع کَوالین: (دروازوں کا) قفل، تالا۔ کوالینی: تالے والا، قفل ساز۔

○ کَامبُودِیا: کمبوڈیا (ایک ملک کا نام)

○ کَامبِیُو: شرح مبادلہ (اٹلی زبان کا لفظ)

○ کَامِخ و کَامَخ جمع کَوَامِخ: سرکا کی چٹنی، اچار، مخلوط اچار

○ کَامِیرا: کیمرہ Cemera

○ کامیہ: ابھرواں نقش والا نگینہ۔

○ سوق الکانتو: لنڈا بازار۔

کان: کَانَ ـ کَانًا ـ الرجُلُ: سخت ہونا۔ کَأنَّ: یہ حرف مشبہ بالفعل ہے جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ یہ درج ذیل معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ا۔ تشبیہ جیسے کَأنَّ زیْدًا اسَدٌ (زید تو گویا شیر ہے)۔ یہ اکثر اس معنی میں مستعمل ہے۔ ۲۔ شک و ظن جیسے کَأنَّ زیدًا قائم۔ شاید زید کھڑا ہے۔
۳۔ تقریب جیسے کَأنَّکَ بِالشِّتاءِ مُقبلٌ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے جاڑا آپہنچا ہو۔ بِا کَأنِّی بِکَ تنحطُّ یوں لگتا ہے جیسے تم زوال میں آگئے ہو پہلی مثال میں کاف اور باء زائد ہیں الشتاء کأن کا اسم اور مقبل خبر ہے اور دوسری مثال میں باء اور یاء زائد ہیں کاف کأن کا اسم اور جملہ تنحط اس کی خبر ہے۔

○ کانتین: کنٹین (Canteen)

○ کاهِیة جمع کَوَاهٍ کِهایة: (تیونس کے ایک انتظامیہ ضلع کا) چیف آفیسر، ڈپٹی، نائب، ماتحت، چھوٹا (Sub)

○ کَاوتْشُق: ربڑ

کای کَأَیْ یَکْأَی کَأْیًا الرجُلُ: گفتگو سے تکلیف پہنچانا۔ اکای عنہ: کو ناپسند کرنا۔ کَأَیِّن یا کَائِن: یہ اسم کاف تشبیہ اور ای سے مرکب ہے یہ بھی کم خبریہ کی طرح عمومًا کثرت اور بہتات کے معنی دیتا ہے جیسے کَأَیٍّ مِن رجلٍ یا کَأیِّ رجلًا رأیتُ (میں نے بہت سے افراد دیکھے) لیکن یہ لفظ استفہام کے معنی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے جیسے حضرت ابن مسعود نے حضرت ابن بن کعب سے پوچھا تھا۔ "کَأیِّن تَقرَءُ سورةَ الاحزاب" (تم سورۃ احزاب کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟) انہوں نے جواب دیا، تہتر مرتبہ)۔

کب: ا۔ کَبَّ ـ کَبًّا الاناءَ: برتن کو اوندھا کر دینا ـ الرُّجلَ علیٰ وَجْهِهِ ولِوَجْهِهِ: کو منہ کے بل پچھاڑ دینا۔ ـ الشیئُ: بھاری ہونا۔ کَبَّبَ: کباب بنانا۔ اَکَبَّ فلانًا: کو پچھاڑ دینا ـ الرجُلُ: پچھڑنا، گر جانا۔ تکَبَّبَتِ الابل: اونٹ کا بیماری وغیرہ کی وجہ سے گر جانا۔ الکُبَّةُ ج کُبَبٌ: بوجھ کہا جاتا ہے۔ اَلْقَی عَلَیهِ کُبَّتَهُ: اس نے اس پر اپنا بوجھ ڈال دیا۔ الکَبَابُ: کباب (جو آگ پر بھون کر پکایا جاتا ہے)۔ الْمُکِبُّ والمِکْبَاب: زمین کی طرف بہت زیادہ دیکھنے والا۔
۲۔ کَبَّ ـ کَبًّا الغزْلَ: کاتے ہوئے سوت کا گولہ بنانا۔ اَکَبَّ عَلَی العِلمِ وغیرہ: پوری لگن کے ساتھ علم وغیرہ میں مشغول ہونا۔ ـ علیہ: کسی کو بچانے کے لئے اس پر بچھ جانا۔ تَکَبَّبَ: کپڑے میں لپٹنا۔ ـ الرمل اوالشجر: ریت یا درخت کا تہ بتہ ہونا۔ تَکَابَّ القومُ علی الشیئ: قوم کا کسی چیز پر رش کرنا۔ اِنْکَبَّ علی امرٍ: کسی کام میں محو ہو جانا۔ الْکُبَّةُ ج کُبَبٌ: بہت بڑے اونٹ، گھوڑوں کی جماعت، بھیڑ، دو گھوڑوں کے درمیان ٹکراؤ، لڑائی میں حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے کَلَتْ لهم کَبَّةٌ فی الحرب انہوں نے لڑائی میں بڑا شور شرابہ کیا، گوشت اور گندم کے آٹے کے چھان کو باریک پیس کر اور ملا کر کچا، یا بھون کر یا پکا کر کھایا جانے والا کھانا۔ کُبَّةُ الغزل او الخیط: کاتے ہوئے سوت یا دھاگے کا گولہ۔ کُبَّةُ السجیلة: (ط) گوشت کے بغیر آٹے کے چھان کو بھون کر کھایا جانے والا کھانا (عامی لفظ)۔ الکَبَّةُ لوگوں کی جماعت، بھیڑ، گھوڑوں کے درمیان ٹکراؤ۔ جنگ میں (حملہ کہا جاتا ہے۔ کانت لهم کبة فی الحرب: انہوں نے جنگ میں شور و غل کیا۔ کَبَّةُ الشتاء: سردی کی یکدم آمد اور شدت۔ کبة النار: آگ کا بڑا حصہ۔ الکُبَابُ: چپکنے والی مٹی۔ تہ بتہ ریت، بہت سے اونٹ اور بکریاں۔ المِکَبّ ج مِکَبَّات و مَکَابّ: دھاگہ یا سوت لپیٹنے والی ریل یا گولہ۔
۳۔ الکُبّ: ایک قسم کی کڑوی گھاس
۴۔ کَبْکَبَ: کَبْکَبَةً و کِبْکِبَةً ـ الشیئَ: کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا، پچھاڑنا، پست زمین پر پھینکنا۔ ـ المواشی الشاردة: بدک کر بھاگے ہوئے مویشیوں کو اکٹھا کرنا۔ تَکَبْکَبَ القومُ: اکٹھے ہونا۔ فی

تیابه: کپڑے میں لپٹنا۔ الکُبَاکِب ج کَبَاکِب اور الکُبْکُبُ: گٹھے بدن والا۔ الکَبْکَبُ والکِبْکِب: ایک قسم کا کھیل۔ الکبکبة: تثلیث الکافین کے ساتھ اور الکُبْکُوب و الکُبْکُوبَة: لوگوں کی یا گھوڑوں کی جماعت۔ الکُبْکُوب ج کَبَاکِیب۔ کبة الغزل: دھاگے کا لچھا۔ (عام لوگوں کی زبان میں)

○ کَبَّ ـُ کَبًّا ہُ لوجهه یا علی وجهه: کو جھکانا، منہ کے بل گرانا۔ ہ: کو الٹ دینا، کا خاتمہ کرنا، کو ختم کرنا، ڈگمگا کر گرانا، درہم برہم کر دینا، کو الٹنا، الٹا کرنا، اوندھا کرنا، پلٹنا۔ ہ (سیال چیز) کو انڈیلنا۔ کَبَّبَ ہ: کو گولا بنانا، کا ڈھیر بنانا، کو ڈھیر کرنا۔ أَکَبَّ ہ: کو نیچے گرانا، جھکانا۔ خود کو نیچے گرانا، سجدہ کرنا۔ علی: پر جھکنا، تکیہ لگانا، خود کو کے لئے وقف کرنا، نذر کرنا، پر کامل توجہ کرنا۔ انْکَبَّ علی وجهه: منہ کے بل گر پڑنا۔ علی: پر جھکنا، تکیہ لگانا، پر کامل توجہ دینا، کے لئے خود کو وقف کرنا، نذر کرنا۔ : خود کو نیچے گرانا، خود کو جھکانا، الٹنا، انڈیلا جانا، ڈگمگا کر گرنا، گرنا، الٹا ہونا، اوندھا ہونا، چت ہو جانا، ڈھیر ہو جانا۔ انْکَبَّ علی قدمیه: کے قدموں پر گرنا، کے سامنے جھکنا۔ کَبّ: جبیں سائی، سجدہ ریزی، زمین پر منہ کے بل پڑ جانا، زوال، بربادی، خاتمہ، الٹ پلٹ، تہ بالا کر دینا، جھکنا، جھکاؤ۔ کُبَّة جمع کُبَب: گولا، تاگے کا گولا، انٹی، لچھا، ریل، سوت کی انٹی، کوفتہ۔ کَبَاب: کباب، تلا ہوا یا بھنا ہوا گوشت، کوفتہ۔ کباب صینی: چینی کباب (پھل)۔ کَبَابة و کُبَابة: چینی کباب (پھل) کُبَیْبَة: ایک قسم کا کوفتہ، ایک قسم کا برگر۔ کِبَّة بطاطس: قیمہ کا سموسہ، قیمہ اور آلو کا سموسہ۔ کُبَّایة جمع کبایات: گلاس (پینے کا)۔ مِکَبّ جمع مکبات و مَکَاب: دھاگے کا گولا، سوت کی انٹی، دھاگے کی ریل، دھاگے کی نلکی، ریل۔ إکباب علی: کے لئے نذر، وقف، میں مشغولیت، کا تعاقب، کی جستجو۔ مُکِبّ علی: کیلئے وقف، نذر کیا ہوا، کا خوگر، کا عادی، میں منہمک، ڈوبا ہوا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے، میں دل وجان سے، پوری توجہ سے مشغول۔ مُنْکَبّ علی: مندرجہ بالا معنی میں۔

○ کَبَارِیه جمع کباریهات: طعام خانوں کا تفریحی رقص وسرود۔

کبت: ا۔ کَبَتَ ـِ کَبْتًا ہُ: کو پچھاڑنا۔ کہا جاتا ہے کبتهٗ لوجهه: کو پچھاڑنا، ہلاک کرنا۔ ذلیل ورسوا کرنا، پھیرنا، توڑنا، مطیع کرنا (کہا جاتا ہے: کَبَتَ اللّٰهُ العدوَّ: اللہ دشمن کو ذلیل کرے) توہین کرنا، ذلیل کرنا، غصہ سے رد کرنا، کہا جاتا ہے: کَبَتَ فلانٌ غیظهُ فی جوفه: (فلاں نے اپنے غصے کو اندر ہی اندر ضبط کر لیا) یعنی اظہار نہیں کیا۔ انْکَبَتَ: پچھاڑا جانا، رسوا ہونا، پھرنا، ٹوٹنا۔ المُکْتَبِت: غم سے بھرا ہوا۔

۲۔ الکَبُّوت: بڑی ساری چادر، کمبل جسے سردیوں میں حرارت کیلئے اوڑھا جاتا ہے۔ ہمعصر اہل زبان نے اس پر مِعْطَف: کا لفظ بولا ہے (یہ فرانسیسی لفظ ہے)۔

○ کَبَتَ ـِ کَبْتًا ہ: کو کچل ڈالنا، دبا دینا، زیر کرنا، ہلکا کرنا، دھیما کرنا، قابو میں کرنا یا رکھنا۔ کَبَتَ غیظهُ فی جوفه: غصہ ضبط کرنا۔ انفاسهُ: کی سانس پھلا دینا۔ کَبُّوت جمع کَبَابِیت: کلاہ، ٹوپی، پیرا کی کی ٹوپی، ٹوپی دار لبادہ، کار یا گاڑی کا بالائی حصہ۔

○ کُبُّولة: ڈھیر، ڈلا، موٹا ٹکڑا، غلّہ، گولی، گیند [illegible]: گول۔

○ کَبْتن: کیپٹن (فوجی عہدہ)

کبث: کَبِثَ ـَ کَبَثًا اللحمُ: گوشت کا خراب ہو کر بدبودار ہو جانا صفت کَبِیث و مَکْبُوث۔ کَبَثَ السفینةَ: کشتی کو زمین کی طرف کھے کر لانا، ایک کشتی کا سامان دوسری کشتی میں رکھنا۔

کبح: کَبَحَ ـَ کَبْحًا الدابةَ باللجام: جانور کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔ ۔۔ ہ عن الحاجة: کو ضرورت سے باز رکھنا۔ ہ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ الحائطُ السهمَ: دیوار کا تیر کو واپس کرنا اور اندر نہ گھسنے دینا۔ أکْبَحَ الدابةَ باللجام: چوپایہ کو لگام کھینچ کر روکنا۔

۲۔ کَابَحَ مُکَابَحَةً ہ: ایک دوسرے کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا۔

۳۔ کَبِحَ المکانُ: بلند ہونا صفت کَبِح و مَکْبَح۔

۴۔ الکَبْح ج کَوَابِح: بدشگونی اور بدفالی کی چیز۔ مُعرّ۔ الکُبْح: سخت اونٹ۔

○ کَبَحَ ـَ کَبْحًا ہ: کو روکنا، کی روک تھام کرنا، کو قابو میں رکھنا۔ ہ عن: کو سے روکنا۔ کَبَحَ جماحهُ: کی عدول حکمی کو قابو میں رکھنا، کسی شخص یا چیز کو دبانا، کچل دینا۔ کَبْح: روکنا، کنٹرول کرنا، پابندی، خاتمہ۔ مِکْبَح: بریک (گاڑی وغیرہ کا)

کبد: ا۔ کَبَدَ ـِ کَبْدًا ہ: کے جگر پر مارنا۔ الامرَ: کسی کام کا ارادہ کرنا۔ کَبِدَ ـَ کَبَدًا و کُبِدَ: جگر کی تکلیف کی شکایت کرنا صفت مَکْبُود۔ کَبَّدَتِ الشمسُ السماءَ: سورج کا آسمان کے درمیان میں پہنچ جانا۔ تَکَبَّدَ اللبنُ: دودھ کا گاڑھا ہو جانا حتی کہ دہی کی مانند بن جائے جس کا پینا مشکل ہو جائے۔ الامرَ: کا قصد کرنا۔ الفلاةَ: کے درمیان یا بڑے حصے کا قصد کرنا۔ المکانَ: جگہ کے درمیان میں پہنچنا۔ تَکَبَّدَتِ الشمسُ السماءَ: سورج کا آسمان کے درمیان میں پہنچنا۔ الکِبْد ج اکْبَاد و کُبُود من الامعاء: جگر، کلیجہ۔ سُودُ الأکْبَاد: دشمن۔ (جمع) الکَبْد من الأمعاء (ع ا): جگر، کلیجہ (مذکر ومونث)۔ من السماء: آسمان کا درمیان۔ الکَبد ج اکباد و کُبُود: پسلی، مکمل پیٹ، کسی چیز کا درمیان حصہ، کسی چیز کا بڑا حصہ۔ من الامعاء (ع ا): جگر، کلیجہ۔ کَبِدُ الارض: زمین کی کانوں کی چیزیں مثلاً سونا چاندی وغیرہ۔ کَبِدُ القوس: کمان کے علاقے کے دونوں طرف کا درمیانی حصہ، محاورہ بولا جاتا ہے [illegible] فلاں کی طرف لوگ علم وغیرہ حاصل کرنے کے لئے آتے جاتے ہیں۔ [illegible] پیٹ کا بڑا ہونا، ریت کا درمیانی حصہ [illegible] آسمان کا درمیانی حصہ [illegible] کا اسم مرۃ [illegible]: جگر کی تکلیف [illegible] بڑے جگر والا، جس شخص کی جگر والی جگہ بلند ہو۔ درمیان سے موٹا آدمی۔ سست رفتار، (ح) پرندہ [illegible] ریت کا وہ تودا جس کا درمیان کا حصہ بڑا ہو، وہ کمان جس کا دستہ پوری ہتھیلی سے پکڑا جا سکتا ہو۔ [illegible] من السماء: آسمان کا وسط [illegible]: کائی سے مشابہ ایک پودا جو تر جگہوں پر اگتا ہے دھوپ پڑنے پر اس کے پتے جگر کے رنگ جیسے دکھائی دیتے ہیں۔

۲۔ کَبَدَ [illegible] لوگوں کیلئے سردی کا تکلیف دہ ہونا [illegible]: کسی کام میں تکلیف برداشت کرنا [illegible] مسافر کا رات کی تکلیفیں اور خوف برداشت کرتے ہوئے سفر جاری رکھنا [illegible]: مشقت کی برداشت۔ الکَبَد: مشقت [illegible] ہتھ چکی، (کیونکہ اس کو چلاتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔)

۳۔ الکَبَد: ہوا۔ الکَبْدَة: محبت کا مہرہ۔ الکَبَّاد: چکوترہ (عامی زبان میں)۔

○ کَبَدَ ـُ کَبْدًاهُ: (تکلیف، نقصان وغیرہ) کا کسی کو بری طرح متاثر کرنا، ایذا دینا، تھکا دینا۔ کَبَّدَهُ ہ: کو نقصان وغیرہ پہنچانا۔ کَابَدَ ہ: کو برداشت کرنا۔ تَکَبَّدَ ہ: (نقصانات، سختیاں وغیرہ) برداشت کرنا، جھیلنا، کو کرنے کی جسارت پر مجبور ہونا، کے خطرہ میں ہونا، (نقصانات) اٹھانا۔ کَبْد، کَبَد اور کِبد: (مذکر ومونث) جمع کَبَاد و کُبُود: جگر، کلیجہ، دل، اندر،

درمیان وسط۔ کَبَّاد و کُبَّاد: کئی ترش پودوں کا نام کَبَّاد: چکوترا، چکوترے کا پیڑ۔

کبر :ا۔ کَبِرَ ۔ کِبَرًا۔ فلانا بالسِنّ: سے عمر میں بڑا ہونا۔ کَبِرَ ۔ کِبَرًا و مَکْبِرًا فی السِّنِ: عمر رسیدہ ہونا۔ کَبُرَ ۔ کِبَرًا و کُبْرًا و کَبَارَةً فی القدر: بڑا ہونا اور جسیم ہونا صفت کَبِیر و کُبَّار و کُبَار ۔ علیہ الامرُ: پر کام کا مشکل ہونا، سخت ہونا اور بھاری ہونا۔ کَبَّرَ تکبیرًا و کِبَّارًا اللہ اکبر کہنا۔ الشیئَ: کسی چیز کو بڑا بنانا۔ کَابَرَہُ: سے دشمنی رکھنا، پر غلبہ حاصل کرنا۔ ۔۔۔ ہ علیٰ حَقِّہِ: کے حق کا انکار کرنا۔ کُوبِرَ الرجلُ فی مالہ: ظلم اور زبردستی سے کسی کا مال لے جانا صفت مُکَابَر علَیہ۔ اکْبَرَ الأمرَ: کام کو بڑا اور عظیم سمجھنا ۔۔۔ الرجلَ: کو بڑا شمار کرنا۔ کی تعظیم کرنا۔ تکَبَّرَ: مغرور ہونا، تکابر: تکبر کرنا ۔۔۔ الرجُلُ: اپنے آپ کو بڑا اور بلند مرتبہ ظاہر کرنا۔ استکبر: تکبر کرنا۔ ۔الامرَ: کام کو بڑا سمجھنا۔ الکَابِر: بڑا، جد امجد، بلند شان، سردار۔ الکُبْر: کسی چیز کا بڑا حصہ، شرافت، بلندی۔ کہا جاتا ہے۔ ھُوَ کُبْرُ ھُمْ و کُبْرُھُمْ و کُبْرَتُھُمْ: وہ ان کا بڑا بوڑھا ہے یا نسب میں ان کے زیادہ قریب ہے اس میں واحد جمع مذکر مؤنث سب برابر ہیں۔ الکِبْر: کسی چیز کا بڑا حصہ، شرافت اور بلندی۔ تکبر، بڑا گناہ، کفر و شرک۔ الکِبَر و الکَبْرَة: عمر میں بڑا ہونا، محاورۃً بولا جاتا ہے۔ عَلَاہُ الکِبَرُ او عَلَتْہُ کَبْرَۃٌ: جب وہ بوڑھا ہو جائے۔ الکِبْرَة: بڑھاپا، گناہ کبیرہ، کہا جاتا ہے۔ ھُوَ کِبْرَ تُھُمْ: یعنی وہ ان کا بڑا ہے یا نسب و قرابت میں زیادہ قریب ہے اور کہا جاتا ہے۔ فلان کِبْرَۃُ ولدِ ابیہ: (فلاں اپنے باپ کی اولاد میں اخیر ہے) اس میں واحد جمع، مذکر مونث سب برابر ہیں۔ الکُبَار و الکُبَّار: بڑا الکبیرُ: اللہ تعالیٰ کا ایک نام۔ جمع کِبَار و کُبَرَاء: بڑا، استاذ، رئیس۔ الکَبِیرَة ج کَبِیرات و کَبَائِر: الکبیر کا مونث، گناہ کبیرہ۔ الأَکْبَر ج اَکَابِر و اَکْبَرُون: اسم تفضیل کہا جاتا ہے الأکبر و الأصغر یعنی بڑا اور چھوٹا (اور کہا جاتا ہے۔ اتانی فلان أکبَرَ النہار (فلاں میرے پاس دن چڑھے آیا)۔ اَکَابِرُ القوم: قوم کے شریف لوگ۔ الکُبْریٰ ج کُبَر و کُبْرَیَات۔ الاکبر کا مونث کہا جاتا ہے ھذہ الجاریۃ من کُبْریٰ بناتِ فلان (یعنی یہ فلاں کی لڑکیوں میں سے بڑی بیٹی ہے۔ الکِبْرِیَاء: بزرگی، غرور۔ المَکْبِر، والمَکْبِرَة والمَکْبُرَة: عمر رسیدہ ہونا۔ المُکَبِّرَة (ف) باریک چیزوں کو بڑا کر کے دکھانے والا آلہ، دوربین۔ المَکْبُوراء: اسم جمع بمعنی کُبَرَاء

۲۔ الکَبَر ج کِبَار و أَکْبَار طبلہ (فارسی لفظ) الکَبَر یا الأَصَف (ن): ایک چھوٹا سا خاردار درخت جس کے پھول سفید رنگ کے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وسطی خطوں میں پائے جاتے ہیں اس کے پھولوں اور پھلوں کو ملا کر پیس کر سفوف تیار کی جاتی ہے جسے عامی زبان میں الکُبَّار کہا جاتا ہے۔ الکُبْرَان ج کَبَارِین: سینہ بند پر پہنا جانے والا لباس (عامی لفظ ہے) الاَکْبِر والا کَبُر: خشک حلوے کی مانند ایک میٹھی چیز جسے شہد کی مکھی شہد اور موم کے علاوہ جمع کرتی ہے۔

۳۔ کَبْرَتَ الشیئَ: پر گندھک ملنا الکِبْرِیت (ك): گندھک، سرخ یاقوت، سرخ سونا، کہا جاتا ہے ذَھَبٌ کِبْرِیتٌ او فِضَّةٌ کِبْرِیتٌ: یعنی خالص سونا یا خالص چاندی۔

ﷺ کَبُرَ ۔ کُبْرًا ہُ ب: سے ۔ سال بڑا ہونا، سے ۔ سال عمر میں بڑا ہونا۔ کَبُرَ ۔ کُبْرًا و کِبَرًا و کَبَارَةً: بڑا، چوڑا ہونا یا ہو جانا، بڑھنا، زیادہ بڑا یا چوڑا ہو جانا، مشہور ہو جانا، اہمیت حاصل کر لینا، اہم ہو جانا۔ ۔۔۔ عن: سے ناقابل یقین حد تک بڑا یا چوڑا ہونا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ ۔۔۔ نہایت تکلیف دہ ہونا، دوبھر ہونا، پریشان کن ہونا، ظالمانہ ہونا۔ ۔ علی: کیلئے ناقابل برداشت معلوم ہونا، نہایت مشکل یا سخت ہونا، کو ایسا معلوم ہونا کہ وہ اسے دور نہ کر سکے گا۔ کَبَّرَ ہ کو زیادہ بڑا کرنا، بڑا کرنا، بڑھانا، چڑھانا، عظمت عطا کرنا، پھیلانا، وسیع کرنا، لمبا کرنا، میں اضافہ کرنا، کو چوڑا کرنا، بلند کرنا، میں شدت پیدا کرنا، کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، میں مبالغہ کرنا، کو بانس پر چڑھانا، کو بگاڑنا، زیادہ سنگین بنانا، کو بدتر بنانا۔ ۔۔۔ ہ/ ہ کی تعریف کرنا، کی حمد کرنا، حمد و ثنا کرنا، کو سرفراز کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا۔ کَابَرَہ: سے کبر و نخوت، حقارت یا تذلیل کے ساتھ سلوک یا برتاؤ کرنا، سے سبقت لیجانا چاہنا، سے بازی لیجانے کی کوشش کرنا، سے بہتر کام کرنے کی جدوجہد کرنا یا اس کے لئے اس کا مقابلہ کرنا، سے مقابلہ کرنا۔ ۔۔۔ ہ/ ہ کی مخالفت کرنا، مدافعت کرنا، تردید کرنا۔ ۔۔۔ ہ سے قطع تعلق کرنا، کا بدلہ لینا، کی قانون شکنی کرنا، کی خلاف ورزی کرنا۔ ۔۔۔ ہٹ دھرمی سے اپنی رائے پر اصرار کرنا۔ اَکْبَرَ ہ کو بڑا، اہم یا خوفناک سمجھنا۔ ۔۔۔ ہ: کی تعریف کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا، کو بڑھانا، کیلئے احترام کا مظاہرہ کرنا، کے لئے مودب ہونا۔ ۔ ہ کو سراہنا، پسند کرنا، بنظر استحسان دیکھنا۔ تکَبَّرَ و تکَابَرَ: مغرور و متکبر ہونا، شیخی بگھارنا، اینٹھ کر چلنا، رعب جمانا۔ ۔ علی: کے سامنے حد سے زیادہ مغرور ہونا، کو اپنی مرضی کے تابع کرنے والا ہونا۔ اِسْتَکْبَرَ ہ کو بڑا یا اہم سمجھنا۔ ۔ علی: سے تکبر کرنا، اکڑ یا ہیکڑی کا مظاہرہ کرنا۔ کِبَر: بڑائی، وسعت، وسعت، حجم، ضخامت، جسامت، اہمیت، بزرگی، عظمت، آن بان، وقار، درجہ، رتبہ، حیثیت، نیک نامی، شہرت، شرافت، نجابت، غرور، تکبر، گستاخی، دلیری، بددماغی۔ کُبْر: بڑائی، بزرگی، عظمت، وسعت، حجم، ضخامت، جسامت، پھیلاؤ، کشادگی، فراخی، قوت، طاقت، جلال، شان، کبریائی، شہرت، درجہ، رتبہ، حیثیت، نیک نامی، شرافت، نجابت، بڑا حصہ، کثیر یا بڑی تعداد، کِبَر: بڑائی، وسعت، قد و قامت، ڈیل ڈول، بزرگی، برتری، ناموری، عمر رسیدگی، کَبْرَة عمر رسیدگی۔ کَبِیر جمع کِبَار و کُبَرَاء: بڑا، کافی بڑا، قد آور، جسیم، بھاری، بڑی جسامت کا، وسیع، فراخ، گنجائش والا، لمبا چوڑا، بڑے رقبہ کا، محیط، جامع، اہم، معتدبہ، کثیر، مہیب، عظیم، پہاڑ کا پہاڑ، طاقت ور، زور آور، بارسوخ، ذی اثر، صاحب اختیار، ممتاز، اہم، عمر رسیدہ۔ کَبِیرُ اُمَرَاءِ البحار: امیر البحر، بحریہ کا اعلیٰ افسر۔ کَبِیرَة الخَدَم: گھریلو خادموں کی سربراہ (عورت) کَبِیرُ الاساقفة: لاٹ پادری، اسقف اعظم۔ کَبِیرُ السِّن: عمر رسیدہ۔ کبیرُ القُضَاة: چیف جسٹس۔ چیف مجسٹریٹ ابو کبیر: ہنگ کل صغیرة و کبیرة: ہر مفرد تفصیل کِبَار الضُّبَّاط: سینئر افسران کبار المُوَظَّفِین: سینئر عہدیداران۔ کِبَارُ الهَیئَات پبلک کارپوریشنوں کی سرکردہ شخصیات کَبِیرَة جمع کبیرات و کَبَائِر و کُبَر: بڑا گناہ، سنگین بدعنوانی، نہایت برا جرم۔ کُبَّا و کُبَّار: بہت بڑا، جسیم۔ کِبْرِیَاء: آن بان، شان کبریائی، کر و فر، عظمت، غرور، تکبر، تمکنت، زعم، بددماغی۔ اَکْبَر جمع اَکْبَرُون و اَکَابِر، م کُبْرَیٰ جمع کُبْرَیَات: زیادہ بڑا، زیادہ وسیع، زیادہ عمر رسیدہ، سینئر مرتبہ کا المفتی الأکبر: مفتی اعظم۔ سوریا الکُبْرَیٰ: عظیم تر شام اَکَابِرُ القوم: قوم کے رہنما الاکبر و الأعیان: رؤساء و ممتاز لوگ۔ تکبیر: بڑا کرنا، توسیع کرنا، بڑھوتی، بڑھا چڑھا کر دکھانا، عظمت، سرفرازی، زور دار بنانا، شدید کرنا، پھیلاؤ، بڑھاوا، مبالغہ، تعلّی، غلو، حرف مبالغہ (گرامر) تعریف، حمد و ثناء، اللہ اکبر اونچی آواز میں کہنا۔ مُکَابَرَة: تکبر، خود بینی، غرور، نخوت، بے جا غرور، خود پسندی، شان و

شکوہ، ضد، ہٹ دھرمی، خودسری، خودرائی۔ اِکبار: تحسین، مدح، پسندیدگی، احترام، ادب، لحاظ، تعظیم، تکبُّر و تکابر: غرور، تکبر، خود بینی، گستاخی، بد دماغی، مُکبِّر جمع مُکبِّرات: آلہ (جہیر الصوت) بلند گو۔ مُکبِّر الصَّوت یا مُکبِّرٌ صوتیٌّ: لاؤڈ سپیکر۔ نَظّارۃ مُکبِّرۃ: محدب شیشہ، کلاں نما۔ مُکبِّرۃ جمع مُکبِّرات: محدب شیشہ، کلاں نما۔ مُکبَّر: بڑا کیا ہوا، بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہوا۔ صورۃ مُکبَّرۃ: بڑی کی ہوئی تصویر۔ بصورۃٍ مُکبَّرۃٍ: اضافی طور پر، بڑے پیمانے پر۔ مُکابر: گستاخ، مغرور، خودرائے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، جھگڑالو، شورہ پشت، لڑاکا، حجتی، نزاع انگیز، تکرار کرنے والا، ضدی، ہٹ دھرم، خودسر، خودرائے، مُصر۔ مُتکبِّر: مغرور، متکبر، آمرانہ، تحکمانہ، نک چڑھا، نخوت پسند، حقارت سے دیکھنے والا۔ کَبَر: ایک خاردار جھاڑی۔ کَبْرَتَ ہ: پر گندھک کا لیپ کرنا، کو گندھک کی دھونی دینا، گندھک سے صاف کرنا، کو ولکنائز کرنا۔ کِبریت: گندھک، ماچس، عودُ کبریت: ماچس کی تیلی۔ یَنبُوعُ کبریتی: گندھک کا چشمہ۔ کِبریتات: سلفیٹ (Sulfate) کُبْرِی یا کوبری جمع کَبارِی: پل، عرشہ جہاز۔

کبس: ا۔ کَبَسَ ـِ کَبْسًا البئرَ: کنویں کو مٹی سے پاٹنا۔ رَأْسَہُ فِی الثوب: سر کو کپڑے میں داخل کرنا۔ ـــ القومَ دارَہُ: لوگوں کا گھر پر اچانک حملہ کرنا۔ الناصیۃُ جبھتَہُ: پیشانی کے بالوں کا پیشانی کو چھپالینا۔ اللفت ونحوَہُ فی الخلّ: شلغم وغیرہ کو کھٹا کرنے کے لئے سرکہ میں بھگو دینا صفت کَبِیس و مَکْبُوس ج مَکابِیس: (عامیہ)۔ کَبَسَ علی الشیئِ: میں گھس پڑنا۔ تکبَّسَ الرجلُ: سر کو گریبان میں داخل کرنا۔ تکبَّسَ علی الشیئ: میں گھس پڑنا ـــ و اِنکبَسَ النھرُ و او البئرُ: نہر یا کنویں کا مٹی سے بھر جانا۔ الکابسۃ مونث الکابس کی: پیشان پر لٹکے ہوئے بال۔ ارنبۃٌ کابسۃ: اوپر کے ہونٹ پر جھکا ہوا ناک کا بانسہ۔ الکِبْس: کنواں پاٹنے والی مٹی، مٹی کا گھر، پہاڑ کی جڑ میں غار، خزانہ۔ الکَبْسَۃ: اچانک حملہ۔ الکَبّاس: سر کو کپڑے میں لپیٹ کر سونے والا۔ الکَبِیس: ایک قسم کا زیور جس کے اندر خوشبو بھری ہوتی ہے۔ المَکابیس: وہ لوگ جو لوگوں کے گھروں میں اکثر گھس آتے ہیں۔ المُکبِّس (فا): لوگوں کے پاس اچانک آکر ان کو دبانے والا۔

۲۔ کَبَسَ ـــ کَبْسًا علی الشیئ: کو زور سے بھینچنا (سریانی لفظ) کَبَسَ الجسدَ: جسم کو ہاتھوں سے مل کر نرم کرنا۔ ـــ المھرَ: بچھیرے کو خوب سدھانا (عامی لفظ)۔ الثورَ: بیل کو ہل چلانے کا عادی بنانا۔ الکابُوس: پریشان کن خواب جس میں سویا ہوا شخص ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ المِکبَس ج مَکابِس و المِکْباس ج مَکابیس: اون یا اوراق وغیرہ دبانے کا آلہ، زیتون کو نچوڑ کر تیل نکالنے کا آلہ المُکبِّس (فا): سرنیچا رکھنے والا۔

۳۔ کَبَسَ ـِ کَبْسًا السنۃَ بیومٍ: سال میں ایک دن زیادہ کرنا۔ السنۃُ الکَبِیسۃ مِن السنین الشمسیۃ: وہ سال جس میں فروری کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے یہ ہر چار سال کے بعد ہوتا ہے۔ ـــ ل: جو چار پر برابر برابر تقسیم ہو جائے۔

۴۔ کَبِسَ ـَ کَبَسًا: بڑے سر والا ہونا صفت أکْبَس مونث کَبْساء ج کُبْس۔ الکِبْس: بڑا سر الکُبّاس: بڑے سر والا، پُر گوشت۔ ھامۃٌ کُبّاسٌ: موٹی گول کھوپڑی۔ ہ الکِبْس: اصل۔ جبالٌ کُبْسٌ و کُبَّسٌ: سخت پہاڑ۔ الکِباسۃُ جمع کَبائِس: کھجوروں کا گچھا۔ الکَبِیس: کھجور کی ایک قسم۔ الکَبْسُول: واحد کَبْسُولۃ کارتوس کے اندر بھرا ہوا بارود۔ بعض عام لوگ اسے کبسون کہتے ہیں اس کی واحد کبسونہ ہے (عام لاطینی لفظ ہے)۔

○ کَبَسَ ـِ کَبْسًا علی: پر دباؤ ڈالنا، کو دبانا، بھینچنا۔ ہ: کسی جگہ حملہ کرنا، چھاپہ مارنا، پر اچانک حملہ کر کے قبضہ کر لینا، کو سرکہ وغیرہ میں ڈال کر محفوظ رکھنا، کا اچار ڈالنا۔ کَبَّسَ ہ: کو سختی سے دبانا یا نچوڑنا، کی چپی کرنا، کے ہاتھ پاؤں دبانا۔ کَبْس: دبانا، نچوڑنا۔ ـــ ہ: چھاپہ، حملہ (سرکہ وغیرہ میں) محفوظ رکھنا، اچار ڈالنا۔ کَبْسۃ: چھاپہ، اچانک حملہ۔ ـــ علی: پر دباؤ۔ کَبّاس: پسٹن، پریس، بندوق کا گز۔ مُوسی کَبّاس: قلم تراش۔ کَبِیس: (سرکہ میں) محفوظ کیا ہوا، اچار، معرب، الحاق کیا ہوا لفظ یا بند۔ سنۃ کَبِیسۃ: لیپ کا سال۔ کابُوس جمع کَوابِیس: کابوس، ڈراؤنا خواب، وہم کی پیداوار، ہوا۔ مِکْبَس جمع مَکابس یا مِکْباس جمع مکابیس: پریس (پمپ کا) پسٹن، بندوق کا گز۔ مِکبَس القُطن: روئی دبانے کی مشین۔ مِکبَسُ الخطابات: نقل اتارنے کی مشین۔ مِکْبَسٌ مائیّ: شکنجہ آبی۔ تکبیس: چپی، ہاتھ پاؤں دبانا، مالش۔ آلۃٌ کابسۃٌ: کمپریسر (Compressor) مَکْبُوس: چھاپہ مارا ہوا، حملہ کیا گیا، دبایا ہوا، محفوظ کیا ہوا، اچار ڈالا ہوا۔ مَکْبُوسات: ڈبوں میں بند ماکولات، مربے۔ کَبْسُول یا کَبْسُولۃ: کیپسول، بندوق داغنے کا آلہ، بم کی بتی، فوٹو اتارنے کی گھنڈی۔

کبش: کَبَشَ ـُ کَبْشًا الشیئَ: کو مٹھی بھر کر لینا۔ الکَبْش: قوم کا سردار، بڑا شہتیر جو دیوار پر نشانہ کرنے کے لئے لگایا جائے، ایک جنگی آلہ جو حصار کے موقع پر قلعوں پر پتھر پھینکنے کے کام آتا تھا۔ ـــ جمع کِباش واَکْباش و اَکْبُش و کُبُوشۃٌ: مینڈھا جب دو سال کا ہو اور بقول بعض چار سال کا۔ الکِباشُ: بہادر لوگ۔ کَبْشُ التوت و کَبْشُ القرنفل ج کُبُوشٌ: توت اور قرنفل کے پھل۔ الکَبْشۃُ عند الخیّاطین جمع کُبَش: (عامی لفظ) گھنڈی، تکمہ، بکسوا۔ الکَبّاشُ: مینڈھوں والا۔

○ کَبْش جمع کِباش واَکباش: مینڈھا، نر بھیڑ، وہ بھیڑ جو سب سے آگے چلتی ہے اور اس کے گلے میں گھنٹی بندھی ہوتی ہے۔ اگوا کار بھیڑ، سردار، رہنما، سربراہ، سالار، کھیا، سرخیل، قائد، سرغنہ، قلعہ شکن گاڑی، دھرمٹ، ٹھوکنے کوٹنے کی مشین، جمع کُبُوش: پشتہ، بند، سہارا، آڑ، شہتوت کا درخت، کَبْشُ التصادم جمع کُبُوش: ریلوے انجن کا ٹکر روک، بمپر۔ کُبُوش قَرَنفُل: لونگ (جمع) کَبْشۃ: مٹھی بھر، ذرا سا، گرفت، پکڑ۔ کُبْشۃ: ڈوئی، کفچہ، کُبْشۃ جمع کُبَش: ہک، شکنجہ، سنڈاسی، کسنے والی چیز، بکسوا، آنکڑا، جڑاؤ پن۔

کبع: کَبَعَ ـَ کَبْعًا الشیئ: کو کاٹنا۔ ہ عن کذا: کو سے منع کرنا۔ کَبَّعَ الشیئَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

۲۔ کَبَعَ ـَ کُبُوعًا: ذلیل ہونا، جھکنا۔

۳۔ کَبَعَ ـَ کَبْعًا الدراھمَ: دراہم پرکھنا اور وزن کرنا۔

۴۔ الکُبَعُ (ح): ایک قسم کی بڑی مچھلی جس کو جمل البحر بھی کہتے ہیں۔

○ کَبْکَبَ ہ: کو ڈگمگا کر گرانا، اوندھا کرنا، الٹ دینا، تلے اوپر کر دینا، الٹا دینا، پلٹانا، گرانا، پھینکنا، پچھاڑنا۔

کبل: ا۔ کَبَلَ ـِ کَبْلًا ہُ: کو بیڑی ڈالنا، قید کرنا ـــ ہُ الدَّیْنَ: سے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا۔ کَبَّلَ ہُ: کو بیڑی ڈالنا، قید کرنا۔ کابَلَ مُکابَلۃً ہ الدَّیْنَ: کو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا۔ ـــ الدارَ: مکان کے خریدنے میں دیر کرنا تا کہ دوسرا شخص خریدے پھر حق شفعہ کا دعوی کر کے لے لینا۔ تکبَّلَ: بیڑی ڈالا جانا، قید ہونا۔ اِکتبَلَ الاسیرَ: قیدی کو بیڑی ڈالنا۔ ـــ الکِیسَ: تھیلی کو باندھنا۔ ـــ خیرَہُ: مال روکے رکھنا، مال خیرات نہ کرنا۔ الکابُولُ: شکاری کا جال۔ الکَبْلُ: ج کُبُولٌ و اَکْبُلٌ: بیڑی، بیڑی

سے بڑی کوئی چیز۔ ڈول کا کنارہ یا ڈول کا وہ کنارہ جہاں چمڑا مڑا ہوا ہو۔ اَلْکِبْلُ ج کُبُوْلٌ و اَکْبُلٌ: بیڑی یا بڑی بیڑی۔

۲۔ اَلْکَبَلُ بہت بالوں والی پوستین۔ اَلْکَبَلُ والکابلیّ: تنگ کپڑا وغیرہ کہا جاتا ہے۔ فَرْوٌ کَبَلٌ او کَابِلِیٌّ۔

کبن ا۔ کَبَنَ ـِ کَبْنًا الثوبَ: کپڑے کو اندر موڑ کر سینا۔ ـ الشیئَ: کو غائب کرنا۔ کَبِنَ ـَ کَبَنًا و کُبُوْنًا الرجُلُ: سامنے والے اوپر یا نیچے کے دانتوں کا منہ کے اندر گھسے ہوئے دانتوں والا ہونا۔ ـــ الظبیُ: ہرن کا زمین سے چمٹنا۔ اِکْبَأَنَّ اِکْبِئْنَانًا: سمٹنا۔ ـــ الظبیُ: ہرن کا زمین سے چمٹنا۔ ـ الرجُلُ: شکستہ دل ہونا۔ اَلْکَبْنُ: (مص) ڈول کا کنارہ، ڈول کا موڑ کر سلا ہوا کنارہ۔ اَلْکُبُنّ: روٹی۔ بخیل، کنجوس، کمینہ اَلْکُبُنَّۃُ: خشک روٹی، کمینہ بخیل۔ اَلْمَکْبُوْنُ من الخیل ج مَکَابِیْنُ مونث مَکْبُوْنَۃٌ: چھوٹی ٹانگوں والا گھوڑا۔

۲۔ کَبَنَ ـِ کَبْنًا و کُبُوْنًا: آہستہ آہستہ دوڑنا، پرسکون ہونا، مطمئن ہونا۔

۳۔ کَبَنَ ـُ کَبْنًا عن الشیئ: کسی چیز سے بد دل ہونا۔ سے باز رہنا ـــ عنہ لسانَہٗ: سے زبان روک لینا۔ ـــ ھَدِیَّتَہٗ: تحفہ روک لینا۔ کَبَنَ ـِ کَبْنًا و کُبُوْنًا: پڑوسی کو چھوڑ کر دوسرے پر احسان کرنا۔ اَکْبَنَ لسانَہٗ عَنْہُ: سے زبان روک لینا۔

۴۔ کَبَنَ ـِ کَبْنًا و کُبُوْنًا: موٹا ہونا۔

۵۔ کَوْبَنَ الفرسَ: گھوڑے پر کوبان ڈالنا۔ اَلْکُوْبَانُ: ایک مخصوص شکل کا کپڑا جو گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا جاتا ہے (عامی لفظ)۔

۶۔ اَلْکُبَانُ: اونٹ کی ایک بیماری۔ اَلْمَکْبُوْنُ ج مَکَابِیْنُ مونث مَکْبُوْنَۃٌ: کبان کی بیماری والا اونٹ۔ رجل مکبون الاصابع: سخت اور مضبوط انگلیوں والا مرد۔

کبو ا۔ کَبَا یَکْبُوْ کَبْوًا و کُبُوًّا لِوَجْھِہٖ: منہ کے بل گرنا ـــ ماءً فی الوعاء: برتن میں پانی ڈالنا۔ ـــ الکوزَ: کوزہ میں موجود چیز کو گرا دینا۔ کَابٰی مُکَابَاۃً السیفَ: تلوار کو میان میں رکھنا۔ اِنْکَبٰی: منہ کے بل گرنا۔

اَلْکَبْوَۃُ: کبا کا اسم مرہ۔ تیرگی۔

۲۔ کَبَا یَکْبُوْ کَبْوًا و کُبُوًّا ت النارُ: آگ کی چنگاری کا راکھ میں پوشیدہ ہونا۔ ـــ الغبارُ: غبار کا اوپر کو چڑھنا۔ ـــ الجمرُ: چنگاری کا بلند ہونا۔ ـــ الرجُلُ: بیٹھے بیٹھے اونگھتے رہنے کے بعد جاگ کر پھر اونگھنے لگنا

صفت کابٍ (عامیۃ)۔ کَبّٰی تَکْبِیَۃً النارَ: آگ پر راکھ ڈالنا۔ ـــ ثوبَہٗ بالکِبَاء: کپڑے کو کباء سے دھونی دینا۔ تَکَبّٰی علی المِجْمَرۃ: عود دان پر کپڑے کو ڈالنا۔ اِکْتَبٰی بالعود: عود سے دھونی لینا۔ اَلْکَابِیُ: (قا) بلند کہا جاتا ہے۔ فلان کابی الرماد: فلاں بہت راکھ والا ہے یہ اس کے مہمان نواز ہونے سے کنایہ ہے۔ غبارٌ کابٍ: بلند غبار۔ اَلْکَابِیَۃ مونث الکابی کا جھاگ ـــ نار کابیۃ: راکھ میں چھپی ہوئی آگ۔ اَلْکِبَاءُ: پانی کے ادھر ادھر غلیظ جھاگ، کوڑا کرکٹ۔ اَلْکُبَاءُ: بلند۔ اَلْکِبَا ج کُبًی: دھونی کی لکڑی۔ اَلْکُبْوَۃُ: دھونی دینے کی انگیٹھی۔

۳۔ کَبَا یَکْبُوْ کَبْوًا و کُبُوًّا الزَنْدُ: چقماق سے آگ نہ نکلنا۔ ـ السھمُ: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ اَکْبٰی اِکْبَاءً الزَنْدُ: چقماق سے آگ نہ نکلنا۔ اَکْبَیْتُ الزندَ: میں نے چقماق سے آگ کے بغیر دھواں نکلنے دیا الفحمُ الکابی: بجھا ہوا کوئلہ۔ رجُلٌ کابٍ: باوجود خیر کی طرف دعوت کے متوجہ نہ ہونے والا مرد۔

۴۔ کَبَا یَکْبُوْ کَبْوًا و کُبُوًّا الشیئَ: کسی چیز کو صاف کرنا۔ ـــ البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا۔ اَلْکِبَا و اَلْکِبٰی ج اَکْبَاءٌ والکُبَۃُ ج کُبُوْنٌ: کوڑا کرکٹ۔ اَلْکُبْوَۃُ: غبار۔

۵۔ کَبَا یَکْبُوْ کَبْوًا و کُبُوًّا النبتُ: نباتات کا مرجھانا۔ ـ النورُ: روشنی کم ہونا۔ ـ لونُ الصبح والشمس: صبح یا آفتاب کا تاریک ہونا۔ اَکْبٰی اِکْبَاءً وجھَہٗ: چہرہ تبدیل کرنا۔

○ کَبَا ـُ کَبْوًا و کُبُوًّا: ٹھوکر کھانا، پھسل پڑنا۔ ـ ہ: برتن خالی کرنا، برتن کی چیزوں کو گرا دینا۔ ـــ (روشنی کا) دھندلانا (رنگ کا) پھیکا پڑ جانا، (گرد و غبار کا) بلند ہونا، چکر کھانا۔ اَکْبَا: لاٹری کا شرازہ نہ دینا۔ اِنْکبا: سر کے بل گرنا، ٹھوکر کھا کر گرنا، پھسل پڑنا۔ کَبْوَۃ: سقوط، الٹ کر گرنا، اُتارنا، ٹھوکر کھا کر گرنا، غلط قدم، گرد و غبار، کـابٍ: پھیکا (رنگ) دھندلی (روشنی)، زرد، پرسکوت، موٹا، فربہ، چربیلا، بھرا ہوا، کمزور، زار و نزار، ست، ڈھیلا ڈھالا۔

کت: ا۔ کَتَّ ـُ کَتًّا ہٗ: کو شمار کرنا کہا جاتا ہے۔ اتانا بجیش مایُکَتُّ: (وہ ہمارے اوپر بے شمار فوج لے کر آیا اور کہا جاتا ہے۔ ماتَکُتُّہٗ او تَکُتُّ النجومَ: تو اسے یا ستاروں کو شمار نہیں کر سکتا۔

۲۔ کَتَّ ـُ کَتِیْتًا: آہستہ آہستہ چلنا۔

۳۔ کَتَّ ـُ کَتًّا الکلامَ فی اذنہ: کے کان میں چپکے چپکے کوئی بات کہنا۔ اَکَتَّ الکلامَ فی اذنہ: کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہنا۔ اِکْتَتَّ الکلام فی اذنہ: کے کان چپکے چپکے کہنا۔ ـ الحدیثَ: بات سننا۔

۴۔ کَتَّ ـِ کَتًّا البعیرُ: اونٹ کا آہستہ آہستہ بڑبڑانا۔ کَتَّتِ القدرُ: ہنڈیا کا ابلنا۔ تکَاتَّ الناسُ: لوگوں کا شور کے ساتھ جمع ہونا۔ اَلْکَتَّۃُ: کت کا اسم مرہ۔ اَلْکَتِیْتُ (مص) ہانڈی اور شراب وغیرہ ابلنے کی آواز

۵۔ کَتَّ ـِ کَتًّا الرجُلَ: مرد کو ذلیل کرنا، رنجیدہ کرنا۔

۶۔ اَلْکَتُّ: کم گوشت مرد یا عورت، دبلا، دبلی۔ اَلْکَتَّۃ: زمین کی سبزی۔ اَلْکُتَّتہ: ردی مال۔ اَلْکَتِیْتُ: بخیل، کہا جاتا ہے۔ رجل کتیتُ الیدین یعنی بخیل مرد۔ الکَتِیتۃ ایک قسم کا کھانا۔

۷۔ کَتْکَتَ الرجُلُ: قہقہہ کے بغیر ہنسنا، آہستہ آہستہ چلنا یا جلدی میں قریب قریب قدم رکھنا تکَتْکَتَ الرجُلُ: آہستہ چلنا۔ اَلْکَتْکَاتُ: تیز اور لگاتار بولتے چلے جانے والا۔

○ کَتَّ ـِ کَتًّا: بھنبھنانا کَتّ و کَتِیت: بھنبھناہٹ

کتالوج جمع کتالوجات: فہرست، فہرست کی الماری۔

کتب: کَتَبَ ـُ کَتْبًا و کِتَابًا و کِتْبَۃً و کِتَابَۃً الکتابَ: کو لکھنا۔ ـ علیہ کذا: پر کچھ واجب کرنا، کہا جاتا ہے۔ کتب اللّٰہ علی عبادِہٖ الطاعۃَ و علی نفسہ الرحمۃَ یعنی اللہ نے بندوں پر اپنی اطاعت فرض کی ہے اور اپنی ذات پر رحمت کو لازم کیا ہے ـــ کَتْبًا القِرْبَۃَ: مشک کو دوہرے تسمہ سے سینا۔ کَتَّبَ الکتابَ: کو لکھنا۔ ـــ الولدَ: بچے کو لکھنا سکھانا۔ ـــ الجنودَ: فوج کے دستے بنانا اور تیار کرنا۔ کَاتَبَ مُکَاتَبَۃً ہٗ: ایک دوسرے سے خط و کتابت کرنا، کے ساتھ مل کر لکھنا، ـــ العبدَ: غلام کو مال معینہ کی ادائیگی کی شرط پر آزاد کرنا۔ اَکْتَبَ ہٗ: کو لکھنا سکھانا، کو لکھنے والا پانا۔ ـــ ہُ القصیدۃَ: کو قصیدہ لکھوانا۔ ـــ القِرْبَۃَ: مشک کا منہ باندھنا۔ تَکَتَّبَ الرجُلُ: کپڑے سمیٹ کر ہوشیار ہونا۔ ـ ت الکَتَائِبُ: فوج کے دستوں کا جمع ہونا۔ تکَاتَبَ القومُ: ایک دوسرے سے خط و کتابت کرنا۔ اِکْتَتَبَ الکتابَ: کو لکھنا، املاء کرانا، لکھوانا، سے لکھنے کو کہنا الغلامَ: کو لکھنا سکھانا۔ ـ القربۃَ: مشک کو دوہرے تسمہ سے سینا ـ بطنُہٗ: بند ہونا۔ ـــ الرجلُ: رجسٹر یا دیوان وغیرہ میں اپنا نام لکھنا، اس سے ہے۔ اکتتب بمال او اعانۃ: کچھ مال چندہ یا عطیہ دینا۔ اِسْتَکْتَبَ ہُ الشیئَ: کو کچھ

لکھنے کو کہنا۔ ـــ ہُ القصیدۃَ: سے نظم املاء کرانے کو کہنا۔ ـــ الغُلامَ: کو کاتب بنانا۔ الکَاتِبُ: (فا) ج کَاتِبُوْنَ و کَتَبَۃَ و کُتَّابٌ: عالم۔محرر۔ الکُتْبَۃُ ج کُتُبٌ: سینے کا تسمہ۔مشک وغیرہ کی درز۔ الکِتْبَۃُ (مص): کتاب کی نقل، کسی حصہ یا رزق کا رجسٹر میں درج ہونا، حالت۔ الکِتَابُ (مص) ج کُتُبٌ و کُتْبٌ: جس میں لکھا جائے۔ خط،صحیفہ،حکم،فرض،اندازہ۔ ـعلی الاطلاق: ہر وہ کتاب جو منزل من اللہ ہو۔ ـــ اھل الکتاب: وہ لوگ جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو۔ ـــ ام الکتاب: اصل کتاب۔سورۃ الفاتحہ۔ الکُتُبِیُ: کتابوں کا محافظ۔کتب فروش الکِتَابَۃُ (مص): لکھا ہوا۔مال معین کی ادائیگی پر غلام کو آزاد کرنا۔ الکُتَّابُ: ج کَتَاتِیبُ: کاتب کی جمع۔ تعلیم گاہ۔ الکُتَیْبُ: بندھن سے بندھی ہوئی مشک الکَتِیبَۃُ ج کَتَائِبُ: لشکر کا دستہ یا گھوڑوں کی جماعت۔ المَکْتَبُ ج مکاتب: تعلیم گاہ، لکھنے کی جگہ۔ المَکْتَبَۃُ ج مَکَاتِبُ: لائبریری۔ المُکْتِبُ (فا) ـــ رجل مُکْتِب: جس کے پاس کتابیں ہوں لوگ وہاں سے لکھتے رہتے ہوں۔ المُکَتِّبُ: (فا) لکھائی سکھانے والا۔ المَکْتُوبُ (مفع) ج مَکَاتِیبُ: خط جو کوئی دوسرے شخص کے پاس بھیجے۔

کَتَبَ ـــُ کَتْبًا و کِتْبَۃً و کِتَابَۃً ہ: کو لکھنا، ریکارڈ کرنا، درج کرنا، کا مسودہ تیار کرنا، (شعر) کہنا، ـــ ہ ل: کو کچھ وصیت کے ذریعے دینا، میراث کے طور پر دینا، ـــ ہ علی: کو کا حکم دینا، ـــ ہ علی / ل: کو اللہ تعالیٰ کا ازل سے کسی کے لئے مقرر کرنا، مقدر کرنا۔ کُتِبَ ل: کے لئے مقدر ہونا، کے مقدر میں ہونا۔ کَتَبَ علی نفسہ ان: کا پکا ارادہ کرنا، کو اپنا فرض بنا لینا۔ کَتَبَ عنہ: کے املا کرانے پر لکھنا۔ کَتَب کِتَابَہٗ: کسی کے لئے نکاح نامہ لکھنا۔ ـــ علی: کا سے نکاح کرنا۔ کَتَّبَ ہ ہ: سے کچھ لکھوانا۔ ـــ ہ: فوجیوں کو سواروں کے دستوں میں منتشکل کرنا یا ان کی صف بندی کرنا یا انہیں پھیلانا۔ کَاتَبَ ہٗ: کے ساتھ خط وکتابت رکھنا۔ کے ساتھ خطوط کا تبادلہ کرنا، کے ساتھ خط وکتابت کرنا، مراسلت کرنا، أَکْتَبَ ہ ہ: کو کچھ املا کرانا، سے کچھ لکھوانا۔ تکاتَبَ: ایک دوسرے کو لکھنا، باہم خطوط کا تبادلہ کرنا، خط وکتابت جاری رکھنا۔ اِنکَتَبَ: چندہ دینا۔ اِکْتَتَبَ ہ: کچھ لکھنا، کی نقل کرنا، کی نقل بنانا۔ ـــ: اپنا نام درج کرنا۔ ـــ ل: میں چندہ دینا۔ ـــ ب ل: کچھ رقم کسی کو چندہ میں دینا۔ ـــ: مندرج ہونا، ریکارڈ ہونا، درج ہونا۔ اِسْتَکْتَبَ ہ ہ: سے کچھ لکھنے کو کہنا، کو کچھ املا کرانا، سے کچھ لکھوانا۔ ـــ ہ: سے نقل بنوانا، کِتَاب جمع کُتُب: تحریر کا ٹکڑا، ریکارڈ، پرچہ، خط، نوٹ، پیغام، دستاویز، معاہدہ، بالخصوص شادی کا معاہدہ (نکاح نامہ)، کتاب۔ الکتاب: قرآن، بائبل اَھْلُ الکتاب: اہل کتاب، مسیحی اور یہودی کتابُ الزواج: شادی کا معاہدہ۔ کتابُ الطلاق: طلاق کا بل کِتابٌ تعلیمي: نصاب کی کتاب، درسی کتاب کتابُ الِاعتماد: کاغذات نمائندگی، مراسلہ تعارف دارُ الکتب: لائبریری کُتُبِي جمع کتبیہ: کتب فروش۔ کتابخانہ و کُتُبخانہ لائبریری، کتابوں کی دکان۔ کُتّاب جمع کَتاتیب کُتاب: قرآنی مدرسہ کُتَیِّب: کتابچہ، کِتابَۃ: لکھائی، فن کتابت، خط (طرز تحریر) قلمکاری، نظام تحریر، دستی تحریر، نقش، کتبہ، سکے وغیرہ، پر لکھی ہوئی عبارت، بلے کارڈ، پوسٹر، تحریر کا ٹکڑا، ریکارڈ، پرچہ، معتمدی، تحریری تعویذ، گنڈا، ٹونا، ٹوٹکا جمع کتابات: تحریریں، مضامین۔ کِتابَۃً: تحریری طور پر بالکتابة: لکھا ہوا۔ بدُون کتابة: نہ لکھا ہوا، زبانی، کورا یا سفید یا سادہ کِتابةُ التاریخ: تاریخ نویسی، وقائع نگاری، تاریخی تحریر۔ کِتابَةُ الدولة: ریاستی سکرٹریٹ۔ کِتابةٌ عامَّةٌ: سیکرٹریٹ جنرل۔ اِسمُ الکتابة: قلمی نام آلةُ الکتابة: ٹائپ رائٹر۔ لُغَةُ الکتابة: ادبی (کتابی) زبان۔ ورق الکتابة: لکھنے کا کاغذ۔ کِتابي: لکھا ہوا تحریری، ادبی، منشیانہ، الہامی کتابوں کا یا الہامی کتابوں پر مبنی (یعنی قرآن، بائبل کا یا ان پر مبنی) الہامی دین کا پیروکار (کسی امتحان کا) تحریری حصہ۔ اسلوبٌ کتابي: ادبی اسلوب غلطة کتابیة: سہو قلم، کلرک کی غلطی اعمالٌ کِتابیَة: کلرک کا کام، دفتری کام، ڈیسک ورک الکمالُ الکِتابي: ادبی، کمال، مکمل ادبی نمونہ، لغةٌ کِتابیة: ادبی (کتابی) زبان مُوَظَّفٌ کِتابي: کلرک۔ کَتِیبة جمع کَتائب: سکواڈرن، رسالہ، سواروں کا دستہ، گھوڑے سوار فوج۔ بٹالین، رجمنٹ، زرہ بکتر، رسالہ یا گاڑیوں پر سوار یونٹوں کی بٹالین، تحریر کا ٹکڑا، پرچہ، ریکارڈ، دستاویز، لکھا ہوا تعویذ۔ مَکتَب جمع مَکاتِب: دفتر، بیورو، کاروباری دفتر، مطالعہ کا کمرہ، سکول، ابتدائی سکول، محکمہ، ایجنسی، ڈیسک۔ مکتبُ الأخبار و مکتبُ الأنباء: خبررساں ایجنسی، پریس ایجنسی، تار ایجنسی مکتب البرید: ڈاکخانہ مکتب البرید الرئیسي: بڑا ڈاکخانہ مکتبُ البرق: ٹیلیگراف آفس مکتب التحریر: ایڈیٹوریل روم مکتب التلیفونات: ٹیلیفون سنٹرل آفس مکتب السفریات: ٹریول ایجنسی۔ مکتب الصِحَّة: ہیلتھ بورڈ مکتب الاستعلامات: دفتر معلومات، خبر رساں ایجنسی، پریس ایجنسی، تار سروس مکتبة جمع مکتبات و مَکاتِب: لائبریری، کتابوں کا سٹور، ڈیسک۔ مِکتاب: ٹائپ رائٹر۔ مکاتبة: خطوط کا تبادلہ۔خط وکتابت اِکْتِتاب: نام درج کرنا، رجسٹریشن، بھرتی کرنا جمع اکتتابات: چندہ۔ اِستکتاب: املاء، آلة استکتابیة: ڈکٹافون۔ کاتِب جمع کاتبون و کُتَّابُ و کتبة: لکھنے والا، لکھاری، قلمکار، مصنف، کلرک، منشی، کاتب، سیکرٹری، ٹائپسٹ کلرک، دفتری کارکن، دفتری ملازم، رجسٹرار، بیمہ کا ماہر، عدالت کا کلرک، دستاویزات وغیرہ کی تصدیق کرنے والا کاتِبُ الدولة: ریاست کا انڈر سیکرٹری کاتِبُ السِرّ: پرائیویٹ سیکرٹری کاتِب قِصَصي: افسانہ نگار، ناول نگار کاتب المَحکَمة: کورٹ کلرک۔ آلةٌ کاتِبة: ٹائپ رائٹر۔ کاتِبة جمع کاتِبات: خاتون سیکرٹری، مصنفہ، ادیبہ۔ مکتوب: لکھا ہوا، ریکارڈ کیا ہوا۔ ـــ علی / ل: کا مقدر۔ ـــ: لکھی ہوئی چیز تحریر۔ جمع مَکاتِیب: تحریر، پیغام، نوٹ، خط، مراسلہ مُکاتِب: اخبار کا نامہ نگار یا رپورٹر۔ مُکْتَتِب: چندہ دینے والا، اخبار یا رسالہ کا خریدار۔

کتح: کَتَحَ ـَ کَتْحًا الطعامَ: کو پیٹ بھر کر کھانا۔ ـــ الدبي الارض: کیڑے مکوڑوں کا نباتات اور درخت وغیرہ کو چاٹ جانا۔ کَتَحَتْہُ الرِّیْحُ: پر ہوا کا گرد و غبار اڑانا۔

کتخ: الکَتْخُدَا و الکَتْخُدَای: دو فارسی زبان کے لفظ ہیں جو سیاستدانوں میں سے گورنر کے سیکرٹری یا منیجر کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

کتد: ا۔ الکَتَد و الکَتِدُ: ج اَکْتادٌ و کُتُوْدٌ: انسان کے دونوں کندھوں کے درمیان کا حصہ کہا جاتا ہے۔ خرجوا علینا أکْتادًا و أکْدادًا: (وہ ہمارے خلاف گروہ گروہ ہوکر نکلے۔ الاَکْتَدُ: وہ شخص جس کے کندھوں کا درمیانی حصہ ابھرا ہوا ہو۔

۲۔ کَاتِدْرَائِیَّۃ: بشپ کے علاقہ کا بڑا گرجا

کتر: الکَتَرُ: لڑکھڑاہٹ کی چال۔ ـــ والکَتَرُ: بلند کوہان۔ الِکتر: بلند کوہان، بلند عمارت، گننا، اندازہ، چھوٹا ہودا، ہر چیز کا درمیانی حصہ۔ الکَتْرَۃُ: چال میں نشے والی لڑکھڑاہٹ، بلند کوہان۔ الکُتْرَۃُ: قبہ، گنبد، کوہان کا ایک ٹکڑا۔

کتش: کَتَشَ ـُ کَتْشًا لاھلہ: اپنے گھر والوں کے لئے کمائی کرنا۔

كتع: كَتَعَ ــَ كَتْعًا بہ: کولے جانا۔ ــ كُتُوعًا فى الارض: دور ہونا اور بھاگ جانا۔
كَتِعَ ــَ كَتَعًا فى العمل: مستعد ہونا، کوشش کرنا۔ تَكَاتَعَ الرجلان: ایک دوسرے کا پیچھا کرنا کہا جاتا ہے۔ جاء مُكْتِعًا و مَكْوُتِعًا: وہ تیز بھاگتا ہوا آیا۔
۲۔ كُتِعَ ــَ كَتَعًا: سکڑنا، بل جانا، لنجا ہونا۔ حَوْلٌ كَتِيعٌ: پورا سال۔ الْاَكْتَعُ مونث كَتْعَاءُ: جس کی انگلیاں ہتھیلی کی طرف مڑی ہوئی ہوں۔ یہ لفظ اجمع کا تابع بھی ہے لیکن اس موقع پر یہ اجمع کے بغیر استعمال نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے رأيتهم اجمعين اكتعين. میں نے ان سب کو دیکھا۔ الكَتْعَاءُ: یہ بھی مونث کی تاکید کیلئے جمعاء کا تابع ہے کہا جاتا ہے اشتريتُ الدارَ جَمْعَاءَ كَتْعَاءَ: میں نے پورا مکان خرید لیا۔ كُتَعُ: ج كَتْعَاء: یہ مونث کی تاکید کے لئے آتا ہے کہا جاتا ہے۔ اشتريتُ هٰذهِ الدارَ جَمْعَاءَ كَتْعَاءَ ورأيتُ اخواتك جُمَعَ كُتَعَ: میں نے یہ سارا گھر خرید لیا ہے، میں نے تیری تمام بہنوں کو دیکھا۔ كتع وصف اور عدل دو اسباب کی بناء پر غیر منصرف ہے اور كتع کو جمع کے بعد بطور تاکید استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جمع کے بغیر تنہا استعمال نہیں ہوتا۔ رائٌ مُكْتَعٌ: متفقہ رائے۔
۳۔ كَتَّعَ اللحمَ: گوشت کے ٹکڑے کرنا۔ الكَتِيعُ: تن تنہا، اکیلا کہا جاتا ہے۔ ما بالدار كتيعٌ او كُتَاعٌ: یعنی گھر میں ایک بھی نہیں۔
۴۔ كَاتَعَهُ اللّٰهُ: خدا اسے تباہ کرے۔
۵۔ الكُتَعُ: ج كِتْعَانٌ: ذلیل کمینہ۔ الكُتْعَةُ ج كِتَاعٌ۔ والكُتَعَةُ ج كُتَعٌ، والكِتْعَةُ ج كِتَعٌ: چھوٹا ڈول۔ الكَتْعَاءُ: لونڈی۔ الكَتِيعُ: کمینہ، ذلیل۔
○ اَكْتَعُ جمع كُتْعٌ: مڑی ہوئی انگلیوں والا، لنجا۔
كتف: ۱۔ كَتَفَ ــِ كَتْفًا و كِتَافًا الرجلَ: کے کندھے پر مارنا، کی مشکیں کسنا۔ السرجُ الدابّةَ: زین کا جانور کے کندھے کو زخمی کرنا۔ ــ كَتْفًا و كَتِيفًا: آہستہ چلنا یا کندھے ہلاتے ہوئے چلنا، کجاوہ کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھنا۔ كَتْفًا و كَتَفَانًا الطائرُ: پرندے کا بازوؤں کو پیچھے کی طرف ملا کر اڑنا۔ كَتِفَ ــَ كَتَفًا: چوڑے یا بڑے کندھوں والا ہونا، کندھے میں درد کی شکایت کرنا۔ ــ الرجلُ: مرد کا آہستہ چلنا۔ كَتَّفَ الرجلَ: کسی کی مشکیں کسنا۔ ــ ت الفرسُ: گھوڑے کا چلنے میں کندھوں کو ہلانا۔ تَكَتَّفَ: سینے پر ہاتھ باندھنا۔ ــ ت الخيلُ: گھوڑے کا چلنے میں کندھوں کو اٹھانا۔ اِكْتَتَفَ البندقيةَ: نشانہ کے لئے بندوق کندھے پر ٹکانا۔ الكَتِفُ والكِتْفُ والكَتْفُ ج كِتَفَةٌ و اَكْتَافٌ (ع ا): شانہ، کندھا (مونث) ضرب المثل ہے اِنَّهُ لَيَعْلَمُ مِنْ اَيْنَ تُؤْكَلُ الكَتِفُ: اس چالاک شخص کے حق میں بولتے ہیں جو معاملات کے داؤ پیچ سے واقف ہو۔ الكَتَفُ: (مص) کندھے کے درد کی وجہ سے جانور کی لنگڑاہٹ، کندھے کی کمی کوتاہی۔ الكِتَافُ ج اَكْتِفَةٌ و كُتُفٌ و كُتْفٌ: مشکیں کسنے کی رسی۔ الكُتُفَانُ والكِتْفَانُ: واحد كِتْفَانَةٌ (ح) ٹڈیاں جو پہلی مرتبہ اڑیں۔ الكَتِيفَةُ: ج كَتَائِفُ: دروازے کی چٹخنی۔ الاَكْتَفُ من الرجال، مونث كَتْفَاءُ ج كُتْفٌ: جس کا کندھا درد کر رہا ہو۔ ــ من الخيل و الجمال: وہ اونٹ یا گھوڑا جس کے کندھے میں درد ہو۔ ــ من الخيل: وہ گھوڑا جس کے کندھے کا اوپر کا حصہ چوڑا ہو۔ المَكْتُوفُ: وہ جانور جس کا شانہ زین کے لگنے سے زخمی ہو گیا ہو۔
۲۔ كَتَفَ ــِ كَتْفًا و كِتَافًا و كَتَّفَ الاناءَ: برتن کو لوہے وغیرہ کے پتر سے جوڑنا۔ الكَتِيف جمع كُتُف: لوہے وغیرہ کا چوڑا پتر۔
۳۔ كَتَفَ ــِ كَتْفًا و كِتَافًا الامرَ: کو ناپسند کرنا۔ الكاتف (فا): ناپسند کرنے والا۔ الكَتِيفَةُ: ج كَتَائِفُ: کینہ۔
۴۔ كَتِفَ ــَ كَتَفًا و كَتِيفًا في الامر: میں نرمی کرنا۔
۵۔ كَتَّفَ اللحمَ و نحوَهُ: گوشت وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔ الكَتِيفُ ج كُتُفٌ: چوڑی تلوار۔ الكَتِيفَةُ: ج كَتَائِفُ: جماعت۔
○ كَتَفَ ــِ كَتْفَاهُ: کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالنا۔ ــ ہ کو باندھنا۔ كَتَّفَ: ہاتھ پشت پر باندھنا ــ ہ: ہاتھ پشت پر یا سینہ پر باندھنا۔ تكتّف و اِستكتف: ہاتھ باندھنا۔ تَكَاتَفَ: کندھے ملا کر کھڑا ہونا، ایک دوسرے کی تائید و حمایت کرنا، متحد ہونا، متحد رہنا۔ كَتِف، كَتْف و كِتْف جمع اَكْتَاف و كِتَفَة: کندھا، مونڈھا، پہاڑ کی ڈھلان، پل کا کنارے کا سہارا۔ جمع اكتاف: اڑواڑ، ستون۔ ما هكذا تُؤْكَلُ الكتف: ایسا کرنے کا یقینا یہ طریقہ نہیں اس سے نپٹنے کا یہ طریقہ نہیں۔ كِتَاف جمع كُتُف: بیڑی، ہتھکڑی۔ اَكْتَف مونث كَتْفَاء جمع كُتْف: چوڑے کندھوں والا۔ كَتَكَت: سوزن کاری کا ریشمی دھاگا، ریشم کی ردی كَتْكُوت جمع كَتَاكِيت: چوزہ، چینگا۔
كتل: ۱۔ كَتَلَ ــُ كَتْلًا ہ: کو قید کرنا۔ كَاتَلَ ہُ اللّٰهُ: کو اللہ کا تباہ و برباد کرنا۔ الكَتَالُ: تنگ زندگی۔ الاَكْتَلُ: مصیبت۔ المُكْتَلُ: زمانے کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت۔
۲۔ كَتِلَ ــَ كَتَلًا: چمٹنا صفت كَتِلٌ۔ الحمارُ: گدھے کا زمین پر لوٹنے سے گرد آلود ہونا۔ كَتَّلَ الشيَ: کو جمع کرنا، گول بنانا، عوام الناس اسے "كَبْتَلَه" بولتے ہیں۔ تَكَتَّلَ الشيُ: جمع ہونا، تہ بہ تہ ہونا اور گول ہونا۔ عوام الناس اسے تَكَبْتَلَ کہتے ہیں۔ ــ القصيرُ: پستہ قد کا چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔ الكَتَالُ: گوشت، قوت ــ و الكَتَلُ: سخت جسم، کہا جاتا ہے۔ القى عليه كَتَالَهُ: اس نے اس پر اپنا بوجھ ڈالا۔
الكُتْلَةُ: ج كُتَلٌ: گوشت کا ٹکڑا ــ من الطين و نحوه: مٹی وغیرہ کا جمع شدہ ٹکڑا۔ ــ الكُتْلَةُ الجُزَيْئِيَّةُ لجسم ما (ك): کسی جسم کے حصوں کی معین تعداد کا عدد۔ الذَّرِّيَّةُ لجسم ما (ك): کسی جسم کے ذرات کی معین تعداد کا عدد۔ ذراتی آکسیجن ۱۶ گرام ہے۔ الاَكْتَلُ: سخت۔ المِكْتَلُ والمِكْتَلَةُ ج مَكَاتِلُ: چمڑے وغیرہ کا بنا ہوا ٹوکرا۔
۳۔ اِنْكَتَلَ: گزرنا، جانا۔
۴۔ الكُتَالُ: وہ ضرورت جس کو تم پورا کرو، نفس، مشقت، درست کیا ہوا لباس یا کھانا۔ الكَتِيلَةُ ج كَتَائِلُ (ن): وہ کھجور کا درخت جس تک ہاتھ نہ پہنچ سکے۔
۵۔ الكَتَلْبَةُ (ن): ایک خوبصورت درخت جو آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔ جس کا اصلی گہوارہ شمالی امریکہ ہے۔ اسکے پتے چوڑے جبکہ پھول بڑے بڑے اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں جن پر مختلف رنگوں کی لکیریں ہوتی ہیں۔
۶۔ الكَاثُولِيكُ: واحد کاثولیکی: کیتھولک عیسائی جو پاپائے روم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں (یونانیہ)۔
○ كَتَلَ ــُ كَتْلًا و كَتَّلَ ہ: کو اکٹھا کرنا، ڈھیر کرنا، ڈھیر بنانا۔ تَكَتَّلَ: ڈھیر لگنا، گچھا ہونا، چپکے لینا، ایک اتحاد یا گروہ میں متحد ہونا۔ كُتْلَة جمع كُتَل: ڈلا، ٹکڑا، ڈھیلا، منجمد شئے کا چکنا، بیشتر حصہ، ل ڈھیر، مکعب، بلاک، شہتیر، لنٹل، سرول۔ كُتَل بشرية: لوگوں کے ہجوم، انبوہ كتلة الجسد: جسم کا ڈھانچہ۔ كتلةٌ من الاعصاب: نڈر، ہٹا کٹا شخص۔ الكتلةُ الوطنية: قومی اتحاد۔ مِكْتَل جمع مكاتل: بڑی ٹوکری۔ تَكَتُّلٌ: اتحاد سازی، بلاک سازی۔ سِيَاسَةُ التكتل: اتحادوں کی پالیسی۔ مُتَكَتِّل: منجمد، ڈلی دار، گٹھلیوں والا، جڑا ہوا، گچھا بنا ہوا، اکٹھا کیا

ہوا، مرتکز، مرکوز، ٹھیک پیوست کیا ہوا، اچھی طرح چھپایا
چھپایا ہوا، موٹا تازہ، ہٹا کٹا، مشٹنڈا، گٹھیلا، بھاری بھر
کم۔

کتم: کَتَمَ ـُـ کَتْمًا و کِتْمَانًا الشیئَ: کو پوشیدہ کرنا۔ کبھی کَتَمَ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے کہا جاتا ہے، کَتَمْتُ زیدًا الحدیثَ: میں نے زید سے بات چھپائی اور مفعول اول میں مِن کی زیادتی بھی جائز ہے اور کہا جاتا ہے کَتَمْتُ مِن زیدٍ الحدیثَ ـ کُتُومًا و کِتَامًا الاناءُ: برتن کا دودھ یا پانی کو بہنے سے روکے رکھنا۔ کَتَّمَ الشیئَ: کو پوشیدہ کرنا، چھپانے میں مبالغہ کرنا۔ کَاتَمَ مُکَاتَمَةً ہُ السرَّ کسی سے راز چھپانا کہا جاتا ہے۔ کاتمه العداوة یعنی اس نے دشمنی کو اس سے چھپایا۔ تَکَاتَمَ الرجلان الحدیثَ ایک دوسرے سے بات پوشیدہ رکھنا۔ اُکْتُتِمَ الشیئَ کو پوشیدہ کرنا، چھپانا۔ اِنْکَتَمَ: چھپنا۔ اِسْتَکْتَمَ السرَّ فلانًا: سے راز چھپانے کو کہنا۔ الکَاتِمُ (فا) کہا جاتا ہے۔ سِرٌّ کَاتِمٌ: بمعنی مکتوم یعنی چھپا ہوا بھید۔ قوسٌ کاتمٌ: ثابت و درست کمان جس میں پھٹن وغیرہ نہ ہو۔ الکَتْمَةُ: کسی چیز کو چھپانا۔ الکَتْمَةُ: اسم مرہ، کہا جاتا ہے۔ ما راجعته کَتْمَةً یعنی میں نے اس سے ایک لفظ بھی جواب میں نہیں کہا۔ الکُتَمَةُ والکَتَّامُ والکَتَّامَةُ: بھید وغیرہ کو بہت زیادہ چھپانے والا۔ الکَتُومُ: بھید کو چھپانے والا۔ من القِسِیِّ: وہ کمان جس سے آواز نہ نکلے یا وہ کمان جو درست اور صحیح ہو۔ الکَتِیمُ من القِسِیِّ: وہ کمان جو بالکل درست ہو یا جس سے آواز نہ نکلے۔ خَرْزٌ کَتِیمٌ: درز جو زیادہ کشادہ نہ ہو اور اس سے پانی نہ ٹپکے۔ سحابٌ مُکْتَتِمٌ: ایسا بادل جس میں گرج نہ ہو۔

۲۔ اِکْتَتَمَ الشیئُ: زرد ہونا۔

۳۔ الکَتَمُ والکِتْمَانُ (ن): ایسا پودا جس سے بالوں کو رنگا جاتا ہے اور اس سے لکھنے کے لئے سیاہی بنائی جاتی ہے۔ الاَکْتَمُ: بڑے پیٹ والا، شکم سیر۔

○ کَتَمَ ـُـ کَتْمًا و کِتْمَانًا ہ عن: کو سے چھپانا، پوشیدہ رکھنا، راز میں رکھنا۔ ـــ ہ: (غصہ، جوش وغیرہ) کو دبانا، روکنا۔ ـــ ہ: (سانس روکنا۔ ـــ ہ: (آواز) کو نیچا کرنا، دبا دینا۔ ـــ ہ: (آگ) بجھانا۔ کَتَمَ انفاسَهُ: کا سانس پھلانا، کو مدہوش کر دینا۔ کَتَّمَ ہ: کو چھپانا۔ کَاتَمَ ہ ہ: سے کچھ چھپانا، راز میں رکھنا۔ تَکَاتَمَ: خاموش رہنا، (کے بارے میں) خاموشی اختیار کرنا۔ اِکْتَتَمَ: بمعنی کَتَمَ۔ اِسْتَکْتَمَ ہ: سے کوئی بات راز میں رکھنے کو کہنا، سے راز کی بات کہنا، کو میں راز دار بنانا۔ کَتْم و کِتْمان: اخفاء، چھپانا، خاموشی (جوش و جذبہ وغیرہ) دبانا۔ کَتِیم: سختی سے بند کیا ہوا، ہوا بند، نا قابل گذر، غیر نفوذ پذیر۔ کَتُوم: خاموش، اخفائے راز کا دلدادہ، چپ، نہ بتانے والا، کم گو، کم سخن، موقع محل دیکھ کر بات کرنے والا۔ کِتَام: قبض۔ تَکَتُّم: اخفاء، پوشیدگی، خاموشی، پردہ داری، رازداری۔ اِکْتِتَام: بمعنی تَکَتُّم۔ کَاتِمُ السِرِّ: (پرائیوٹ) سیکرٹری۔ مَکْتُوم: چھپا ہوا، پوشیدہ، محفوظ کیا ہوا (راز): جسے قبض کی شکایت ہو۔

کتن: کَتِنَ ـَـ کَتَنًا: دھوئیں سے سیاہ ہونا۔ ـ الشیئُ سے میل کچیل لگنا۔ ـ الوسخُ علی الشیئِ: پر میل کا چپاں ہونا۔ ـــ فلانٌ: سیاہ لب ہونا۔ ـــ ت النخلةُ: کھجور کے درخت کی جڑوں پر مٹی کا چڑھ جانا۔ کَتَّنَ و اَکْتَتَنَ الشیئَ: کو چپکانا۔ تَکَتَّنَ تِ المرأةُ: عورت کا برقعہ، دستانے اور موزے پہننا۔ الکِتْنُ: پیالہ۔ الکَتَنُ: میل کچیل، دیوار کی دھوئیں کی وجہ سے سیاہی، چسپیدگی ہونٹ کی سیاہی، کھجور کی جڑ کی مٹی۔ الکَتِنُ: پیالہ۔ سِقَاءٌ کَتِنٌ: میلی کچیلی مشک۔ الکَتَّانُ (ن): السی کا پودا۔ (ن) بہتر کائی کہا جاتا ہے لبس الماءُ کَتَّانَهُ: پانی کائی والا ہو گیا۔ الکَتَّانِیَّةُ (ن): السی کے پودے کے پتوں جیسے پتوں والا ایک پودا۔ اس کی ایک قسم زرد رنگ کے بڑے بڑے پھولوں والی ہے جو خوشوں کی شکل کے ہوتے ہیں۔ آرائش کے لئے کاشت کیا جاتا ہے۔ الکَتَّانِیَاتُ (ن) ایک قسم کا پودا۔ الکُتُونَةُ وہ قمیص جسے کاہن لوگ مذہبی تقریب کے وقت نیچے پہنتے ہیں (سریانیہ)

○ کَتِنَ ـَـ کَتَنًا: گندہ ہونا، کالک کے دھبوں والا ہونا، دھوئیں سے کالا ہونا۔ کَتَّنَ ہ: کو گندہ کرنا، کالا کرنا۔ کَتَن: گندگی، کالک، دھواں۔ کَتَّان و کِتَّان: پٹ سن، کتان، کتان کا کپڑا۔ کَتَّانِی: کتان کا بنا ہوا، سن کا، پٹ سن کا۔ کَتِینَة: گھڑی کی چین۔

کتو: کَتَا یَکْتُو کَتْوًا: چلنے میں قریب قریب قدم رکھنا۔ اَکْتَی اِکْتَاءً: دشمن پر غالب آنا۔ اِکْتَوْتَی اِکْتِیتَاءً: غصہ سے بھر جانا، بغیر کام کے اپنی آپ تعریف کرنا۔

کث: ا۔ کَثَّ ـِـ کَثَاثَةً و کُثُوثَةً و کَثَّ ـَـ کَثًّا: سخت ہونا، گاڑھا ہونا۔ ـــ الشَعْرُ: بالوں کا گھنا ہونا۔ ـــ تِ اللِحْیَةُ: داڑھی گھنی، چھوٹی اور گھنگریالی ہونا۔ اَکَثَّ الرجلُ: گھنی داڑھی والا ہونا صفت: کَثٌّ ج کِثَاثٌ و اَکَثُّ مونث کَثَّاءُ ج کُثٌّ۔ الکَثُّ والکَثِیثُ: گھنی کہا جاتا ہے۔ هو کَثُّ اللحیة و کثیثها: وہ گھنی داڑھی والا ہے۔ وامرأة کَثَّةٌ و کَثَّاءُ: گھنے بالوں والی عورت۔

۲۔ کَثَّ ـِـ کَثَاثَةً و کُثُوثَةً و کَثَّ ـَـ کَثًّا بسلحه پاخانہ کرنا۔

۳۔ الکَثَاثُ: کٹی ہوئی کھیتی کے دانوں سے جو دوبارہ اگ آئے۔ الکَثِیثُ: سن وغیرہ کا باریک دھاگہ جو بکھر جائے۔

۴۔ کَثْکَثَ الرجلُ: گھنی داڑھی والا ہونا۔ الکَثْکَثُ والکِثْکِثُ: مٹی، پتھر کی کنکریاں۔

○ کَثَّ ـِـ کَثًّا و کَثَاثَةً و کُثُوثَةً: خصوصاً بالوں کا) گاڑھا یا گھنا ہونا۔ کَثّ: گاڑھا پن، گھنا پن۔ کَثّ و کَثِیث: گاڑھا، گھنا، گنجان اگا ہوا، ٹھوس طور پر ہجوم۔

کثا: کَثَأَ ـَـ کَثْأً و کَثًّا تکثِئَةً اللبنُ ونحوُهُ: دودھ کا پانی کے اوپر اور پانی کا نیچے آنا۔ ـــ الرجلُ: بالائی کھانا۔ ـــ تِ القدرُ: ہنڈیا کا جھاگ دینا۔ ـــ القدرَ: ہانڈی سے جھاگ علیحدہ کرنا۔ الکَثْأَةُ و الکُثْأَةُ من اللبن: بالائی ـــ من الماء: پانی کی سطح پر جو آ جائے کہا جاتا ہے۔ خذ کثأة قِدْرِکَ: اپنی ہنڈیا کے جھاگ کو علیحدہ کرو۔

۲۔ کَثَأَ ـَـ کَثْأً و کُثُوءًا تکثئةً اللحیةُ: داڑھی لمبی اور گھنی ہونا۔ ـــ الزرعُ: کھیتی کا سخت اور گنجان ہونا۔ ـــ ت اوبارُ الابل: اونٹوں کے بالوں کا نکلنا۔ ـــ اَکْثَأَتِ اللحیةُ: داڑھی گھنی اور لمبی ہونا۔ الکَثْأَةُ او الکُثْأَةُ (ن): شام، مشرق وسطی اور متوسط کے علاقوں میں اگنے والی ایک سبزی جس کے پھول زرد ہوتے ہیں اور یہ سبزی سلاد کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔

کثب: ا۔ کَثَبَ (ـُـ) کَثْبًا الشیئَ: کو جمع کرنا ـــ الشیئُ: جمع ہونا۔ ـ القومُ: اکٹھا ہونا ـ لبنُ الناقة: اونٹنی کا دودھ کم ہونا۔ ـ الترابُ: مٹی اڑانا ـ الماءَ: پانی گرانا۔ کَثَّبَ الشیئُ: کم ہونا۔ اَکْثَبَ فلانًا: کو تھوڑا دودھ یا پانی پلانا۔ اِنْکَثَبَ الرملُ: ریت کا ڈھیر ہونا۔ جو کوئی چیز دوسری چیز میں ڈالی جائے تو وہ اس میں مل جاتی ہے۔ الکَاثِبَةُ: ج کَوَاثِبُ: الکاثب کی مونث ـــ من الفرس: گھوڑے کی پیٹھ کا بالائی حصہ۔ الکُثْبَةُ: ج کُثَبٌ: ہر تھوڑی اکٹھی چیز، تھوڑا پانی یا دودھ۔ الکُثَابُ: زیادہ۔ الکَثِیبُ: ج کُثُبٌ و کُثْبَانٌ و اَکْثِبَةٌ: ریت کا ٹیلہ۔

۲۔ کَثَبَ ـُـ کَثْبًا الصیدُ فلانًا: شکار کا کسی کے قریب ہونا کہا جاتا ہے۔ کَثَبَکَ الصیدُ فارْمِهِ (شکار

تیر بے قریب آگیا اس کو تیر مارو)۔ ـــ فی المکان: کسی جگہ میں داخل ہونا۔ ـــ علیہ: پر حملہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ جاء یکتبُہُ: (وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا)۔ کَاثَبَ القومَ: قوم سے قریب ہونا۔ اَکْثَبَ الرجلَ و الیہ و منہ و لہ: کے قریب ہونا کہا جاتا ہے۔ اَکْثَبَکَ الصیدُ فارمِہِ بمعنی کَثَبَکَ الصیدُ فارمِہِ۔ الکَثَبُ: قُرب کہا جاتا ہے۔ رماہ من کَثَبٍ او عَنْ کَثَبٍ: یعنی اس نے اس کو نزدیک سے مارا۔ اَلْکَثَّابُ و الکُثَّابُ: بے پیکان و بے پر کا تیر۔

۴۔ الکُثْبَۃُ: ج کُثُبٌ: پہاڑوں کے درمیان کی پست زمین۔

کَثَب: نزدیکی، قربت، قرب، قرب و جوار۔ علی کثب من یا عن کَثَبٍ من: کے قریب، کے قرب و جوار میں۔ مِن یا عن کثب: نزدیک سے، تھوڑے فاصلہ پر۔

کثج: کَثَجَ ـِ کَثْجًا من الطعام: بقدر کفایت کھانا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت غلہ لے جانا۔

کثح: ۱۔ کَثَحَ ـَ کَثْحًا الشیئَ: کو جمع کرنا، بکھیرنا۔ ـــ من المال: خواہش کے موافق لینا۔ کَثَحَتِ الریحُ التراب علیہ: ہوا کا کسی پر غبار ڈالنا۔ ـــ و کَثَحَ عن کذا: کو ننگا کرنا کہا جاتا ہے۔ کَثَحَتْہُ الریحُ: یعنی اس کو ہوا نے ننگا کر دیا۔ الکُثْحَۃُ من الناس: چھوٹی سی جماعت۔

۲۔ تَکَثَّحَ بالحصی: بتکلف کنکریوں سے مارنا۔ تَکَاثَحَ القومُ بالسیوف: تلوار بازی کرنا۔

کثر: کَاثَرَ ـُ کَثْرًا الرجلَ: پر کثرت میں غالب ہونا۔ کَثُرَ ـُ کَثْرَۃً و کَثَارَۃً: بہت ہونا صفت کَثْرٌ و کَثِیرٌ و کُثَارٌ و کَاثِرٌ و کَیُّثَرٌ۔ کَثَّرَ ہ: کو زیادہ کرنا۔ کَاثَرَہُ: پر کثرت میں غالب آنا، کثرت مال یا کثرت تعداد میں فخر کرنا۔ ـــ الماءَ: پینے کے لئے پانی زیادہ جمع کرنا۔ اَکْثَرَ الرجلُ: بہت مالدار ہونا، بہت لانا۔ ـــ الشیئَ: کو بہت شمار کرنا، بہت پانا، کو بہت کرنا، کہا جاتا ہے۔ اکثر اللّٰہُ فِینا مثلکَ: (اللہ تعالی تمہارے جیسے کو ہمارے اندر شامل کرے) تَکَثَّرَ فلانٌ: کثرت کا دکھلاوا کرنا۔ ـــ بمالِ غیرِہ: دوسرے کے مال سے غنی ہونا۔ ـــ من الشیئ: سے بہت لے لینا۔ ـــ بالکلام: بہت گفتگو کرنا۔ تَکَاثَرَ القومُ: کثیر ہونا، کثرت میں ایک دوسرے پر غالب آنا۔ ـــ الشیئ: کو بہت سمجھنا۔ اِسْتَکْثَرَ الشیئَ: کو بہت سمجھنا یا بہت شمار کرنا۔ ـــ من الشیئ: کو بہت کرنا یا بہت کی رغبت کرنا۔ الکَثْرُ: بہت ـــ کُثْرُ الشیئ: چیز کی بہتات کہا جاتا ہے۔ الحمدُ لِلّٰہِ علی القُلِّ و الکُثْرِ (قلت و کثرت پر اللہ کا شکر ہے)۔ الکِثْرُ: بہت الکَثْرَۃ: بہت الکِثْرَۃ: بہت یہ ردی لغت ہے لیکن بعض نے کہا ہے کہ اگر یہ لفظ قلت کے ساتھ مستعمل ہو تو صحیح ہے جیسا کہ کہا جائے القِلَّۃُ و الکِثْرَۃُ۔ الکُثْرِیُّ من النبیذ و نحوہ: نبیذ وغیرہ کی زیادتی۔ الکُثَّارُ: بہت۔ ـــ و الکِثَارُ: جماعتیں کہا جاتا ہے۔ فی الدار کُثَّار او کِثَار من الناس: یعنی گھر میں بہت لوگ ہیں یا لوگوں کی جماعتیں ہیں، اور یہ صرف حیوان کے لئے مخصوص ہے دیگر چیزوں پر نہیں بولا جاتا۔ الکَثِیرُ: بہت، واحد کے برعکس ہے، کہا جاتا ہے۔ رجال کثیر و کثیرۃ و کثیرون و نساء کثیر و کثیرۃ و کثیرات: اور کہا جاتا ہے۔ کَثِیرًا مَا یعملون کذا: (وہ اکثر ایسا کرتے ہیں) یہ ظرفیت کی بناء پر منصوب ہے کیونکہ یہ احیان کی صفت ہے اور مـا تاکید کے لئے ہے اور بعض نے اسے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب کیا ہے اور مـا کو مبالغہ فی الکثرت کے لئے مانتے ہیں۔ الکَیُّثَرُ: بہت فیاض مرد۔ المُکْثِرُ: مال دار۔ المِکْثَارُ و المِکْثِیرُ: باتونی (مذکر اور مونث دونوں کے لئے)۔ المَکْثُورُ (مفع): مغلوب۔ وہ شخص جس پر بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اسے دبالیں۔ وہ شخص جس کا سرمایہ ختم ہو جائے اور لوگوں کے حقوق و مطالبات بہت زیادہ ہو جائیں۔

۲۔ اَکْثَرَ النخلُ: کھجور کے درخت کا شگوفہ دار ہونا۔

کثر: کَثُرَ ـُ کُثْرًا ہ / ہٗ: سے تعداد میں زیادہ ہونا۔ کَثُرَ ـُ کُثْرَۃً: بہت ہونا، کئی یا متعدد ہونا۔ ـــ عن: سے زیادہ ہونا۔ ـــ: اکثر و بیشتر واقع ہونا۔ بڑھنا کَثَّرَ ہ: کو بڑھانا، زیادہ کرنا، بڑا کرنا، میں اضافہ کرنا، کو بہت کرنا۔ کَاثَرَ ہ / ہٗ: سے تعداد میں زیادہ ہونا، سے مقدار میں مقابلہ کرنا۔ اَکْثَرَ من: کسی چیز کو بہت کرنا، ـل من: کو کچھ بہت یا اکثر دینا۔ ـــ من / فی: کوئی چیز متواتر، ہمیشہ یا اکثر کرنا۔ ـــ ہ: کو بڑھانا، میں اضافہ کرنا، تَکَاثَرَ علی: کے خلاف جمع ہونا، ٹولہ بنانا، جتھا بنانا۔ اِسْتَکْثَرَ بمعنی اَکْثَرَ نیز استکثر ہ: کو بہت زیادہ سمجھنا، حد سے زیادہ خیال کرنا، بے انداز پانا، کو بہت اونچا یا نہایت تکلیف دہ یا احتیاط طلب سمجھنا۔ ہ علی: کو کے بارے میں زحمت کے لائق خیال نہ کرنا۔ ہ علی: ہ کی وجہ سے جلنا یا رشک کرنا۔ ـــ: بہت کا مطالبہ کرنا، بہت طلب کرنا۔ اِسْتَکْثَرَ بخیرِہ: کا شکریہ ادا کرنا۔ کُثْر: بڑی مقدار، بہتات، بڑا حصہ، زیادہ حصہ، کَثْرَۃ: بڑی مقدار، بڑی تعداد، بہتات، کثرت، کثیر مجمع، فراوانی، کثیر تعداد۔ ـــ من: کا بڑا حصہ۔ بِکَثْرَۃٍ: افراط سے، بہتات سے، کثرت سے، بڑی تعداد، بڑی مقدار الکثیرِ من: کی اکثریت، میں سے اکثر۔ کَثِیرًا: بہت، بڑی حد تک، اکثر کثیرًا ما: اکثر۔ بِکَثِیر: بہت زیادہ، کہیں زیادہ۔ الکثیر مِن اور الکثیرون من: کی اکثریت، میں سے اکثر، کافی، میں سے بہت سے، بہت کثیرٌ علی: کے لئے ضرورت سے زیادہ۔ الشیئُ الکثیر: چیز کی اکثریت ھذا کثیرٌ: یہ بہت یا کافی تعداد ہے۔ فی کثیر مِن الاوقات اور فی احیان کثیرۃ: اکثر، کَثِیراء: جنس کتیر کی جھاڑیاں، گوند کتیرا جو ان جھاڑیوں سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اکثر: زیادہ، اکثر، بڑا حصہ، زیادہ بڑا حصہ۔ الاکثرون: اکثریت، اکثر فاکثر: زیادہ اور زیادہ علی الأکثر: زیادہ سے زیادہ۔ اکثر الامر: زیادہ سے زیادہ۔ اکثر من ذلک: بھی، کے علاوہ، مزید برآں۔ اکثریۃ: اکثریت۔ مِکْثَار: بہت باتونی، بکواسی، بھڑ بھڑیا۔ تکاثُر: بڑھوتری، بڑھنا، اضافہ، ازدیاد، افزائش، مُکْثِر: امیر، دولتمند، مُتَکاثِر: بہت، متعدد، کئی، گوناگوں، مُتَکاثِرُ الرقاع: کئی جگہ پیوند لگا ہوا۔

کثع: ۱۔ کَثَعَ ـَ کَثْعًا اللبنُ: دودھ کا گاڑھا اور بالائی والا ہونا۔ کَثَّعَ اللبنُ: دودھ کا گاڑھا ہونا۔ ـــ ت الارضُ: کی روئیدگی کا ظاہر ہونا۔ ـــ ت القِدْرُ: ہانڈی کا جھاگ پھینکنا۔ ـــ الجرحُ: زخم کا اوپر کا حصہ اچھا ہونا۔ فلانٌ السقاءَ: مشکیزہ کی اوپر کی چکناہٹ کو کھانا۔ الکَثْعَۃُ و الکُثْعَۃُ: بالائی، ہانڈی کا جھاگ۔

۲۔ کَثَعَ ـَ کُثُوعًا ت الغنمُ: بکری کا نرم پیٹ والی ہونا۔ ـــ کَثْعًا و کُثُوعًا و کَثِعَ ـَ کَثَعًا ت الشفۃُ: ہونٹ کا بہت خون والا ہونا یہاں تک کہ لٹکنے کے قریب ہو جائے ایسے ہونٹ کو کَاثِعَۃٌ اور ہونٹ والے کو اَکْثَعُ کہتے ہیں۔ کَثَعَ تْ لِحْیَۃُ فلان: کی داڑھی لمبی اور گھنی ہونا۔ ـــ الغنمُ بمعنی کَثَعَ۔ الکُثْعَۃُ: اوپر والے ہونٹ کے درمیان کا گڑھا۔ اِمرأۃٌ مُکْثَعَۃٌ: ہونٹوں یا مسوڑھوں میں بہت خون والی عورت۔

۳۔ الکَثْعَۃُ: مٹی، گارا، کیچڑ۔

کثف: ۱۔ کَثُفَ ـُ کَثَافَۃً و تَکَاثُفَ: موٹا ہونا، بہت ہونا، گنجان ہونا صفت۔ کَثِیفٌ۔ کَثَّفَ ہ: کو موٹا

کرنا۔ اِسْتَكْثَفَ الشيئُ: گاڑھا ہونا۔ ۔ الشيئَ: کو گاڑھا پانا یا گاڑھا شمار کرنا۔ الكَثْفُ: جماعت۔ الكُثَافُ: بہت۔ الكَثِيفُ: گاڑھا، موٹا کہا جاتا ہے۔ رجُلٌ كَثِيفٌ: یعنی سخت اور بدحالی کی زندگی بسر کرنے والا مرد) بہت کہا جاتا ہے: عسكرٌ كثيفٌ و ماءٌ كثيفٌ یعنی بہت زیادہ لشکر اور پانی۔

المُكَثِّفُ (ف): کپیسٹر، کنڈنسر۔

۲۔ اَكْثَفَ منه: کے قریب ہونا، قدرت دینا۔

۳۔ اِسْتَكْثَفَ الامرُ: بلند ہونا۔

کثل: كَثَلَ ـُـ كَثْلاً الشيئَ: کو جمع کرنا۔ الكَثْلُ: گروہ۔ الكَوْثَلُ والكَوْثَلُ: کشتی کا پچھلا حصہ۔ دنبالہ کشتی۔

۲۔ تَكَثْلَكَ: کیتھولک ہو جانا۔ كَاثُولِيكُ: دیکھیے کاتولیك کیتھولک ہو جانا۔ الكَثْلَكَةُ: پاپائے روم کی زیر پیشوائیت مسیحی جماعت (یونانیہ)

○ كَثُفَ ـُـ كَثَافَةً: موٹا ہونا، گاڑھا ہونا، کثیف ہونا، ٹھوس ہونا، گھنا ہونا، جمنا، زیادہ گاڑھا ہونا، زیادہ ٹھوس یا گھنا ہونا۔ كَثَّفَ ہ: کو گاڑھا کرنا، گاڑھا بنانا، کثیف کرنا، ٹھوس کرنا، بھینچنا، دبانا، دبا کر چھوٹا کرنا، یکجا جمع کرنا (برقیات میں) صلاحیت بڑھانا۔ تَكَثَّفَ و تَكَاثَفَ: زیادہ گاڑھا ہونا۔ مرتکز یا مرکوز ہو جانا، ایک نقطہ پر جمع ہو جانا، گاڑھا ہونا، برا ہونا، ناقص ہونا كَثِيف جمع كِثَاف: موٹا، گاڑھا، کثیف، گھنا، ٹھیک پیوستہ، اچھی طرح جما ہوا، بھاری، کھردرا، گھٹیا، خراب، برا، شیرے کی طرح کی (چٹنی وغیرہ)۔ كَثَافَة: گاڑھاپن، گھناپن، کثافت، بھاری پن، مضبوطی، شدت، تیزی، زیادتی، ٹھوس پن، استحکام، درجۂ کثافت یا سالمات کو ملائے رکھنے کا درجہ، سمائی۔ كثافة السُّكَّان: گنجانیٔ آبادی۔ كثافة الصوت: بلند آوازی، پر آوازی، گونج، آواز کا زور۔ مُكَثِّف جمع مُكَثِّفَات: آلۂ تکثیف، کپیسٹر (Capacitor) مَكَثِّف متغیّر: تغیر پذیر کپیسٹر۔ مُكَثَّف: گاڑھا کیا ہوا، سیال بنایا ہوا، مُتَكَاثِف: گاڑھا، وزنی، ٹھوس، گھنا، گنجان، اکٹھا ہونے والا، مرتکز۔

○ الكَثْلَكَة: عیسائیوں کا رومن کیتھولک مذہب۔

کثم: ۱۔ كَثَمَ ـِ كَثْمًا الشيئَ: کو جمع کرنا، منہ میں رکھ کر توڑنا۔ كَثِمَ ـَ كَثَمًا: شکم سیر ہونا، بڑے پیٹ والا ہونا صفت۔ اَكْثَمُ۔ كَاثَمَ ہ: کے قریب آنا، سے میل ملاپ کرنا۔ اَكْثَمَ القِرْبَةَ: مشک بھرنا۔ ــــ ہُ الصيدُ: سے شکار کا قریب ہونا۔ الكَاثِمُ والكَثِمُ من الطين وغیرہ: گاڑھا کیچڑ وغیرہ۔

كَثَمُ الطريق: راستہ کا ظاہری حصہ، کہا جاتا ہے۔ رماہ عن كَثَم (اس نے اس پر نزدیک سے تیر مارا)۔ الاَكْثَمُ: چوڑا راستہ۔ وَطْبٌ اَكْثَمُ: دودھ سے بھری ہوئی مشک۔

۲۔ كَثَمَ ـِ كَثْمًا الاثرَ: کا اتباع کرنا، کی پیروی کرنا۔

۳۔ كَثَمَ ـِ كَثْمًاہُ عن الامرِ: کو کسی چیز سے باز رکھنا۔ اَكْثَمَ فی بیته: گھر میں روپوش ہونا۔ تَكَثَّمَ: حیران ہونا، توقف کرنا، چھپنا۔ اِنْكَثَمَ من وجه كذا: سے پھر جانا۔

۴۔ اِنكَثَمَ: غمگین ہونا۔

۵۔ الكُثْنَةُ: گلدستہ۔ پھولوں کی ٹوکری

کح: ۱۔ الكُحُّ: خالص کہا جاتا ہے۔ هُوَعَرَبِيٌّ كُحٌّ: وہ خالص عربی ہے۔

۲۔ كَحْكَحَ ہُ: کو عاجز کر دینا۔ (عامی زبان)

○ كَحَّ ـُـ كَحًّا: کھانسنا۔ كُحَّة: کھانسی كَحْكَحَ: کھانسنا، ہلکا سا کھانسنا۔ خشک کھانسی کھانسنا۔ كَحْكَحَة: تھوڑی خشک کھانسی۔ كَحَتَ ـَـ و كَحَّتَ ہ: کو کھرچ کر اتارنا، صارف کرنا، کو چھیل کر اتارنا۔ کحب: كَحَّبَ الكَرْمُ: کچا انگور ظاہر ہونا۔ الكَاحِبُ: بہت، کہاوت ہے۔ عِنْدَہُ دَرَاهِمٌ كَاحِبَةٌ: (اس کے پاس بہت درہم ہیں)۔ الكَحْبُ واحد كَحْبَةٌ: کچا انگور۔

کحث: كَحَثَ ـَ كَحْثًا له من المال: کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر مال دینا۔

کحص: ۱۔ كَحَصَ ـَـ كُحُوصًا الاثرُ: نشان مٹنا، ــ الظليمُ: شتر مرغ کا زمین میں اس طرح جانا کہ وہ دکھائی نہ دے۔ ــ الرجلُ: پیٹھ موڑ کر بھاگنا۔ ــ كَحْصًا البِلٰی فلانا: کو مٹانا، محو کرنا۔ ۔ و كَحَّصَ الاثرَ: نشان مٹانا۔ الكَاحِصُ (فا) مونث كَاحِصَةٌ ج كَوَاحِصُ: نشان کو کرنے والا۔ اطْلَالٌ كَوَاحِصٌ: مکان کے مٹے ہوئے نشانات۔

۲۔ كَحَصَ ـَـ كَحْصًا برجله: پاؤں سے کریدنا۔ ــ الارضَ: زمین سے غبار اڑانا۔ ــ الشیئ: کو کوٹنا۔ الكَاحِصُ (فا) مونث كَاحِصَةٌ ج كَوَاحِصُ: پاؤں سے کریدنے والا۔

کحط: ۱۔ كَحَطَ ـَ كَحْطًا العامُ: خشک سالی ہونا۔ صفت كَاحِطٌ۔

کحف: الكُحُوفُ: جسم کے اعضاء، عام لوگ بولتے ہیں۔ كَحَفَ موخَّرَ حذائِه: (جوتی کا پچھلا حصہ اندر کو موڑنا)۔

کحل: ۱۔ كَحَلَ ـُـ كَحْلًا ــ العینَ: آنکھ میں سرمہ لگانا۔ ــ فلانًا: کی آنکھوں میں سرمہ لگانا صفت كَاحِلٌ و كُحَّالٌ کہاوت ہے۔ كَحَلَ السُّهَادُ عَيْنَهُ: بیداری اور بے خوابی سے کنایہ ہے۔ ــ ـَ كَحْلًا و اَكْحَلَ المكانُ بالخضرة: کسی جگہ نباتات کی ابتدائی سبزی ظاہر ہونا۔ كَحِلَ ـَ كَحَلًا الرجُلُ: سرگیں آنکھوں والا ہونا۔ ــ ت العینُ: آنکھ کا سرگیں ہونا۔ كَحَّلَ العینَ: آنکھ میں سرمہ لگانا۔ فلانا: کی آنکھ میں سرمایہ لگانا۔ تكَحَّلَ: آنکھ میں سرمہ لگانا۔ ــ المكانُ بالخضرة: کسی جگہ ابتدائی سبزی ظاہر ہونا۔ اِكْتحَلَ: سرمہ لگانا۔ ــ السهادَ: بیدار رہنا، نیند نہ آنا۔ ــ المكانُ بالخضرة: کسی جگہ نباتات کی ابتدائی سبزی ظاہر ہونا۔ ــ وجهُهُ بالهمّ: چہرے پر رنج کے اثرات ظاہر ہونا، کہا جاتا ہے مَا اكْتَحَلَتْ عَيْنِي بِكَ: (میں نے تمہیں نہیں دیکھا)۔ اِكْحَالَّتِ العینُ: آنکھ کا سرگیں ہونا۔ ــ المكان بالخضرة: کسی جگہ پہلی سبزی ظاہر ہونا۔ الكُحْلُ: سنگ سرمہ، شفایابی کے لئے آنکھ میں ڈالی جانے والی چیز۔ الكُحْلِيُّ: سرمہ ساز۔ الكِحْلُ والكَحْلَةُ تعویذ کا مہرہ یا نظر بد کا مہرہ۔ الكَحَلُ: پیدائشی طور پر پلکوں والی جگہ کا سیاہ ہونا ضرب المثل ہے۔ لیس التكحل فی العینین كالكَحَل: آنکھوں میں سرمہ لگانا پلکوں والی جگہ کی سیاہی جیسا نہیں عَيْنٌ كَحِلٌ و كَحِيلٌ و كَحِيلَةٌ ج كَحْلٰی و كَحَائِلُ: سرگیں آنکھ۔ الكِحَال: سنگ سرمہ، تعویذ کا مہرہ، یا نظر بد کا مہرہ۔ اَعْيُنٌ كُحَلَاءُ: سرگیں آنکھیں کحائل کی طرح۔ الاَكْحَلُ مونث كَحْلَاءُ ج كُحْلٌ: سرگیں آنکھ والا۔ الكَحْلَاءُ مونث الاكحل کی: وہ عورت جس کی آنکھیں بہت سیاہ ہوں، سفید جسم اور سیاہ آنکھوں والا مینڈھا۔ الكُحَيْلُ: نفط یا قطران جو اونٹوں پر ملا جاتا ہے۔ المِكْحَلُ والمِكْحَالُ: سرمہ کی سلائی۔ المُكْحُلَةُ: سرمہ دانی۔ المُكَحَّلَةُ (ن): ایک خوبصورت پھولدار پودا جو مشرق وسطی کے خشک علاقوں خصوصاً لبنان میں اگتا ہے اس کے پھول نیلے رنگ کے ہوتے ہیں جس کی خوشبو بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے یہ ہالینڈ میں خاص طور پر اگایا جاتا ہے اس کی مختلف شکلیں اور مختلف رنگ ہوتے ہیں۔

۲۔ كَحَلَ ـَ كَحْلًا العامُ: سخت خشک سالی ہونا۔ ــ ت السنونَ القومَ: کو قحط لاحق ہونا۔ اَكْحَلَ العامُ: سخت خشک سالی ہونا۔ اِكْتَحَلَ فلانٌ: نرمی کے بعد سختی میں مبتلا ہونا۔ الكَحْلُ (مص): سخت قحط کا سال۔ كَحْلُ و كُحَلُ و كَحْلَةُ: (غیر منصرف) آسمان

کے نام ہیں کہا جاتا ہے۔ صَرَّحَتْ كُحْلُ: (جبکہ آسمان میں بادل نہ ہوں)۔

۳۔ الكُحْلُ: مال کثیر۔ الكُحُولُ او الكُحُولُ الايتيليكُ او الايثَانُولُ: عام لوگوں کی زبان میں اس کو سبیرتو (ك) بولا جاتا ہے: سپرٹ، الکحل (Alcohal) الكُحُولَات (ك): بنیادی طور پر الكحول الاتيليك: کے خواص کا حامل مواد۔ الاَكْحَلُ: بازو کی ایک شریان کا نام جس کی فصد کھولی جاتی ہے۔ الكَحْلَاءُ والكُحَيْلَاءُ: (ن) جسے " لسان الثور " بھی کہا جاتا ہے۔ جنگلی گھاس پھوس جس پر خوشنما نیلے پھوگ لگتے ہیں۔ Blue weed

◯ ما اِكْتَحَلَ غَمَاضاً (يا غِمَضًا): نیند نہ آنا، كُحْل جمع اَكْحال: سرمہ پوٹے رنگنے کی کوئی چیز، كَحَل: کناروں، پپوٹوں کو کالا کرنا۔ كَحِل: سرمہ سے سیاہ کیا ہوا، کالے کئے ہوئے پپوٹے۔ كُحْلِي: گہرا نیلا۔ كُحْلَة: دیوار کے جوڑوں کو بھرنا۔ اَكْحَل مونث كَحْلَاء جمع كُحْل: سیاہ (آنکھ) الأَكْحَل: بازو کی درمیانی رگ كَحْلاء: ایک قسم کی نیل جھاڑی۔ كَحِيل جمع كَحَائل: سرمہ سے کالا کیا ہوا پپوٹہ، شریف ترین نسل کا گھوڑا۔ كُحُول: الکحل، سپرٹ۔ الكُحُولي: الکحلی، نشہ آور۔ كُحَيْلِي و كُحَيْلَان: شریف ترین نسل کا گھوڑا۔ كِحَال: پسا ہوا سرمہ۔ الكَحَّال: آنکھوں کا ڈاکٹر مِكْحَل و مِكحال: سرمہ لگانے کی سلائی۔ مُكْحُلَة جمع مُكَاحِل: کحل کا برتن، شمسی ربع دائرہ، رائفل، گن، كاحِل جمع كَوَاحِل: ٹخنہ کی ہڈی۔

كحى، كَحىٰ يَكْحِيْ كَحْيًا الشيئُ: خراب ہونا۔

كخ: كَخَّ ـِ كَخًّا و كَخِيْخًا فى نومه: خراٹے لینا۔ كِخْ و كَخْ: (کاف کی زبر اور زیر کے ساتھ) جب بچے کو کسی چیز کے پکڑنے سے روکنے یا کسی چیز سے بچانے کے لئے ڈانٹ کر آواز دی جاتی ہے اسے کخ کہتے ہیں۔

◯ كِخْيَة و كاخِيَة جمع كَوَاخ: خانسامہ، جہاز کا ملازم (مسافروں کی خدمت کے لئے)

كدّ: ا۔ كَدَّ ـُ كَدًّا: کام میں محنت کرنا، روزی تلاش کرنا۔ مانگنے میں اصرار کرنا۔ الراسَ: سر میں کنگھی کرنا یا سر کو خوب کھجانا۔ ـــــ الرجُلَ: کو تھکانا۔ كَدَّدَهُ: کو سختی سے ہٹانا۔ تَكَدَّدَ: تکلیف برداشت کرنا۔ اِكْتَدَّ واِسْتَكَدَّهُ: سے کام میں محنت کرانا۔ الكَدُّ (مص): جس میں کوئی چیز کوٹی جائے جیسے (ہاون دستہ) محاورہ ہے۔ لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَدِّكَ ولَا مِنْ كَدِّ اَبِيكَ: (یہ تمہاری اور تمہارے باپ کی کوشش سے حاصل نہیں ہوئی)۔ الكِدَّةُ: سخت زمین کیونکہ اس پر چلتے ہوئے چوپایوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ الكَدُودُ: سخت محنتی آدمی بِئْرٌ كَدُودٌ: وہ کنواں جس کا پانی مشکل سے نکل سکے۔ الكَدِيدُ: سخت زمین، وادی سے زیادہ فراخ زمین، موٹا پسا ہوا نمک ـــ قَوْمٌ اَكُدَادٌ و اَكَادِيدُ: شکست خوردہ لوگ (ان الفاظ کا واحد مستعمل نہیں ہوتا) محاورہ بولا جاتا ہے۔ رأيتُهم اَكُدَادًا و اَكَادِيدَ: (میں نے انہیں ٹولیوں کی شکل میں دیکھا) اور "اِبِلٌ اَكُدَادٌ: تیز چلنے والے اونٹ۔ المِكَدُّ: کنگھی۔ المَكْدُودُ: (مفع) مغلوب۔ ـــ اَرْضٌ مَكْدُودَةٌ: کھروں سے روندی ہوئی زمین۔

۲۔ كَدَّ ـُ كَدًّا و اِكْتَدَّ الشيئَ: کسی چیز کو ہاتھ سے چھیننا۔ الكُدَدَةُ والكَدَدَةُ: ہانڈی کی کھرچن۔ ہانڈی کا باقی ماندہ کھانا۔ الكُدَادَةُ: بمعنی الكُدَدَة۔ كُدَادَةُ السَّمَنِ: گھی کی تلچھٹ۔ ـ كُدَادَةُ الكَلَاءِ: تھوڑی گھاس۔ الأَكِدَّةُ: چری ہوئی چراگاہ کا بقیہ حصہ۔

۳۔ كَدَّ ـُ كَدًّا: سائل کی طرح انگلی سے اشارہ کرنا۔

۴۔ اَكَدَّ واِكْتَدَّ: روک لینا، کنجوسی کرنا۔ الكَدُودُ: کنجوس۔

۵۔ كَدْكَدَ الرجُلُ: زور سے ہنسنا۔ چلنے میں بوجھ محسوس کرنا۔ ـــ عليه: پر حملہ کرنا۔ وتَكَدْكَدَهُ: کو سختی سے ہٹانا۔ الكَدْكَدَةُ (مص): کسی سخت چیز پر کوئی چیز مارنے کی آواز۔

◯ كَدَّ ـُ كَدًّا: سخت محنت کرنا، کوشش کرنا، زور لگانا، جدوجہد کرنا، مشقت کرنا، جان مارنا۔ ـ هُ: کو تھکا دینا، كَدَّدَه: کو لیجانا، کا پیچھا کرنا، کو دور کرنا۔ اِكْتَدَّ و اِسْتَكَدَّه: کو تھکا دینا، دور کرنا، تیزی سے بھیجنا، پرزور دینا۔ كَدّ: تکلیف، بڑی محنت اور کوشش، سخت محنت، مشقت، جانفشانی۔ كَدُود: محنتی، سخت محنت کرنے والا، مستعدی سے کام کرنے والا مَكْدُود: تھکا ہوا، جس نے بہت زیادہ کام کر ڈالا ہو۔

كدأ: ا۔ كَدَأَ ـَ كَدْأً و كُدُوءًا النبتُ: نباتات کا سردی یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے مرجھا جانا اور نہ بڑھنا۔ وكَدَأَ البَرْدُ النَّبَاتَ: سردی کا نباتات کو زمین سے اوپر نہ بڑھنے دینا۔ كَدِئَ ـَ كَدْءً او كُدُوءًا النبتُ: نباتات کا سردی یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے مرجھا جانا یا اگنے میں دیر کرنا ـــ كَدَأَ البَقْلُ: سبزیوں کا چھوٹا اور خراب ہونا۔ ـ تِ الْاِبِلُ: اونٹوں کا کم بالوں والا ہونا۔ اَرْضٌ كَادِئَةٌ: دیر سے اگانے والی زمین۔ اِبِلٌ كَادِئَةُ الاَوْبَارِ: کم بال والے اونٹ۔

۲۔ كَدِئَ ـَ كَدَأَ الغُرَابُ: کوے کا قے کرنے جیسی آواز نکالنا۔

كدب: الكَدَبُ والكُدُبُ والكَدَبُ واحد كَدَبَةٌ: جوانوں کے ناخنوں کی سفیدی۔ الكَدِبُ واحد كَدِبَةٌ بمعنی الكَدَبُ۔ دَمٌ كَدِبٌ: تازہ خون۔

كدج: كَدَجَ ـَ كَدْجًا الرجُلُ: بقدر کفایت پینا۔

كدح: كَدَحَ ـَ كَدْحًا فِي العَمَلِ: کام میں بہت محنت کرنا۔ ـــــ لِعِيَالِه: اہل و ایال کے لئے رزق کمانا۔ رأسَهُ بالمشط: کنگھی سے سر کے بالوں کو علیحدہ کرنا۔ ـــــ وكَدَّحَ الوجهَ: چہرے کو نوچنا۔ تَكَدَّحَ الجِلدُ: پر خراش آنا، کہا جاتا ہے۔ وَقَعَ مِنَ السَّطحِ فَتَكَدَّحَ: (وہ چھت سے گر پڑا اور اسے خراش آئی۔ اِكْتَدَحَ لعياله: اہل و عیال کے لئے رزق کمانا۔ الكَدْحُ (مص) ج كُدُوحٌ: خراش۔

◯ كَدَحَ ـَ كدحًا فى: میں یا کے ساتھ بہت محنت کرنا، مشقت کرنا۔ كَدْح: محنت، مشقت تندہی، سرگرمی، سعی، جدوجہد، غلامانہ کام۔

كدر: ا۔ كَدَرَ ـُ وكَدُرَ ـُ وكَدِرَ ـَ كَدَرًا و كَدَارَةً و كُدُورًا و كُدُورَةً و كُدْرَةً: گدلا ہونا، مٹیالہ ہونا۔ العيشُ: زندگی تلخ ہونا، کہا جاتا ہے۔ كَدَرَ عَلىٰ فُلَان: وہ فلاں پر غضبناک ہوا۔ كَدَّرَ الشيئَ: کو گدلا کرنا، میلا کرنا، کہا جاتا ہے۔ كَدَّرَ عَيْشَ فُلَان: اس نے فلان کی زندگی تلخ کردی۔ ـ الرجُلَ: کو غمگین کرنا۔ تَكَدَّرَ الشيئُ: بمعنی كَدِرَ ـ عليه: وہ فلاں پر غضبناک ہوا۔ بعض دفعہ یہ مِنْ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے۔ تكَدَّرَ منه۔ اِكْدَرَّ الشيئُ: گدلا ہونا۔ الكَدَرُ والكَدِرُ والكَدِيرُ من العيش او الالوان وغير ذالك: تلخ، غیر صاف، میلا، گدلا۔ الكُدْرَةُ (مص) من الالوان: مٹیالا رنگ۔ الكَدَرَةُ ج كَدَرٌ: باریک بادل۔ من الحوض: حوض کی کیچڑ یا کائی وغیرہ۔ الكُدْرِيُّ (ح): یہ قطا کی قسم کا پرندہ ہے جس کی پیٹھ کا رنگ مٹیالا اور سیاہی مائل اور گردن زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ والكُدَارِيُّ: باریک بادل۔ الكُدَارَةُ: ہانڈی میں گھی کی تلچھٹ۔ الاَكْدَرُ مونث كَدْرَاءُ ج كُدْر: مٹیالا۔ عَيْشٌ اَكْدَرُ: مکدر زندگی۔

۲۔ كَدَرَ الماءَ: پانی گرانا۔ اِنْكَدَرَ فى السير: تیز دوڑنا چلنا۔ عليه القومُ: قوم کا کسی پر ٹوٹ پڑنا۔ ـــ ت النجومُ: بکھر جانا۔ الاَكْدَرُ مونث كَدْرَاءُ ج كُدْرٌ: سخت سیلاب۔

۳۔ الكَدَرَةُ ج كَدَرٌ: کٹی ہوئی کھیتی کا ایک مٹھا۔ الكُدُرُ

مونث كُدُرَةٌ: موٹا قوی گٹھے بدن والا جوان۔ حِمَارٌ كُدُرٌ: موٹا گدھا۔

○ كَدَرَ ہ علی: کو کے لئے خراب کرنا، کے سکون میں خلل ڈالنا۔ تَكَدَّرَ من: کسی بات پر ناراض ہونا، غصہ ہونا، پریشان ہونا، سے دل کو ٹھیس پہنچنا، کا پر ناگوار گزرنا، کا کو برا لگنا پریا کے بارے میں چڑچڑا ہو جانا۔ اِنْكَدَرَ: میلا ہو جانا، گدلا ہو جانا، سپاٹ ہونا، پرندہ کا جھپٹنا۔ كَدَر: میلاپن، گدلاپن، پریشانی كُدْرَة: گدلاپن، میلاپن، تاریکی، كَدَرَة: گندگی یا غلاظت کا ڈھیلا۔ كَدِر و كَدِير: میلا، گدلا، غلیظ، تاریک، دھندلا، پریشان، مضطرب۔ تَكْدِير: پریشان کرنا، دل کو ٹھیس پہنچانا، ٹھیس، ناراضگی، غصہ، رنجش، برملا توہین، گستاخی، بدسلوکی، مُتَكَدِّر من: پر ناراض، غصے، سے چوٹ کھایا ہوا، پریشان، دل کو ٹھیس پہنچا ہوا۔

كدس ۱۔ كَدَسَ ـِ كَدْسًا و كُدَاسًا ہ: کو دفع کرنا۔ ہٹانا۔ ـــ المُثْقَلُ فی سيره: گرانبار انبار آدمی کا دوڑنا۔ تَكَدَّسَ الرجُلُ: کندھے ہلاتے ہوئے دوڑنا اور چلتے ہوئے سینہ ابھارنا۔ الفرسُ: گھوڑے کا گرانبار کی طرح چلنا۔

۲۔ كَدَسَ ـِ كَدْسًا و كُدَاسًا ت الخيلُ: گھوڑوں کا چلنے میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا۔ به الارضَ: کو پچھاڑنا۔ و۔ كَدْسًا و كَدَّسَ الحصيدَ: کٹی ہوئی کھیتی کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر لگانا۔ تَكَدَّسَ: ڈھیر کا ایک دوسرے کے اوپر ہونا۔ ـــ ت الخيلُ: گھوڑوں کا چلنے میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا۔ الكُدْسُ ج اَكْدَاس: کٹی ہوئی کھیتی یعنی دانوں کا ڈھیر۔ اَكْدَاسُ الرَّملِ: ریت کا تہ بتہ ڈھیر۔ الكُدَاسُ من الثلج او الحصيد وما اشبه: برف یا کٹی ہوئی کھیتی وغیرہ کا ڈھیر۔ الكُدَاسَةُ: ایک دوسرے پر جمع کیا ہوا ڈھیر۔ الكُدَاسُ ج كَدَادِيسُ: کٹی ہوئی کھیتی یعنی دانوں کا ڈھیر۔ المُتَكَادِسُ (فا) من الشجر: گنجان درخت،

۳۔ كَدَسَ ـِ كَدْسًا و كُدَاسًا ت الدابَّةُ: چوپائے کا چھینکنا۔ كَدْسًا: بدفالی لینا۔ الكَادِسُ ج كَوَادِسُ: چھینک وغیرہ جس سے بدفالی لی جائے۔ الكُدْسَةُ والكُدَاسُ: جانوروں کی چھینک، کبھی انسانوں کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

○ كَدَسَ ـِ كَدْسًا و كَدَّسَ ہ: کو ڈھیر کرنا، کا انبار لگانا، کو دبانا۔ تَكَدَّسَ: ڈھیر لگنا، ڈھیر ہونا، دبنا۔ كُدْس جمع اَكْدَاس: ڈھیر، انبار، (بھوسے وغیرہ کا لیپا ہوا) ڈھیر۔ كُدَّاس ج كداديس بمعنی سابق كُداسة بمعنی سابق تكديس: (بھوسے وغیرہ کا) لیپا ہوا، ڈھیر، ڈھیر، انبار۔

كدش۔ كَدَشَ ـِ كَدْشًا ہ: کو خراش لگانا، تلوار یا نیزہ سے مارنا، کاٹنا۔ الكَدْشُ: زخم، کہا جاتا ہے۔ جِلْدٌ كَدْش: خراش زدہ کھال۔

۲۔ كَدَشَ ـِ كَدْشًا ہ: کو سختی سے ہٹانا، ہانکنا، نکالنا۔ تَكَدَّشَ الرجُلُ: پیچھے سے دھکا دیئے جانے کی وجہ سے گر جانا۔

۳۔ كَدَشَ ـِ كَدْشًا لعياله: اپنے اہل وعیال کے لئے حیلہ کرنا اور محنت ومشقت سے کمائی کرنا۔ ـ واَكْدَشَ واكْتَدَشَ من فلان عطاءً: سے کو حاصل کرنا۔ الكَدَّاش: بہت کمائی کرنے والا۔ باصرار مانگنے والا۔

۴۔ اَكْدَشَ بخبر: تھوڑی سی خبر دینا۔

۵۔ الكَدِيشُ مونث كَدِيشَة ج كُدْش: عام سا گھوڑا (عامی زبان) وہ اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں۔ كَدَّشَ الجَوَادُ: دوڑنے اور حملہ کرنے والا گھوڑا عام گھوڑا ہو گیا۔

○ كَدِيش جمع كُدْش: چھکڑے کا گھوڑا، چھوٹا گھوڑا، ٹٹو، سواری کا ٹٹو، تھکا ہوا گھوڑا، مریل، ناکارہ گھوڑا (مزاحا)

كدع: كَدَعَ ـَ كَدْعًا ہ: کو ہٹانا، دفع کرنا۔ الكُدْعَةُ: ذلیل ورسوا۔

كدف: اَكْدَفَ الفرسُ: گھوڑے کی ٹاپ کی آواز سنائی دینا۔ الكَدْفَةُ: ٹاپ یا چاپ کی آواز۔

كدم: كَدَمَ ـِ كَدْمًا: اگلے دانتوں سے کاٹنا۔ كَادَمَ ت الدابَّةُ الحشيشَ: چوپائے کا گھاس پر اچھی طرح سے قادر نہ ہونا۔ تكادَمُوا بالأفواه: ایک دوسرے کو دانت سے کاٹنا۔ الكَدْمُ (مص) ج كُدُوم: اثر، نشان۔ الكَدَمُ: دانت سے کاٹنے کا نشان۔ الكَدَمُ واحد كُدَمَةٌ: بہت نشانوں والا، بہت لڑاکا (ح): سبز سر والی کالی ٹڈی۔ الكُدْمَةُ: كَدَم کا اسم مرہ، داغ، نشان۔ الكُدَامُ: ہر چیز کا بقیہ حصہ، جیسے چری ہوئی چراگاہ کا، گھاس کی جڑیں جو پانی پڑنے کے بعد پھر اگ آئیں۔ الكُدَامَةُ: کھائی ہوئی چیز کا بقیہ حصہ، دانت سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا۔ الكَدَّام والكَدُوم: دانت سے کاٹنے والا۔ المَكْدَمُ: دانت سے کاٹنے کی جگہ۔ المُكَدَّمُ: دانت سے کاٹا ہوا۔ رَجُلٌ مُكَدَّمٌ: جنگ کا زخمی۔

۲۔ كَدَمَ ـُ كَدْمًا الصيدَ: شکار کو بھگانا، کہا جاتا ہے۔ كَدَمَ فِي غَيرِ مَكْدَم: بے موقع طلب کیا۔

۳۔ كُدِمَ الاسيرُ: قیدی کو مضبوط باندھا جانا۔ المُكَدَّمُ من الحبال والاكسية: مضبوط بٹی ہوئی رسی اور مضبوط بنا ہوا کپڑا۔ اَسِيرٌ مُكَدَّمٌ: رسی سے بندھا ہوا قیدی۔ قَدَحٌ مُكَدَّمٌ: موٹے شیشہ کا پیالہ۔

۴۔ الكُدَامُ: بوڑھا مرد۔

○ كَدَمَة جمع كَدَمَات: دانت کا زخم، ہلکا زخم، خراش، گپت مار، بھیتری مار، اندرونی مار۔

كدن: ۱۔ كَدَنَ ـُ كَدْنًا بالثوب: پکا باندھنا۔ الكَدْنُ والكِدْنُ ج كُدُونٌ: کپڑا جس کو عورت پردہ میں رہتے ہوئے پہنے، پالکی، کجاوہ۔

۲۔ كَدَنَ ـُ كَدْنًا الفدَّانَ(ز): زمین میں ہل چلانے کے لئے بیلوں کی جوڑی بنانا (عامی زبان)۔ الكَدْنَةُ: زمین کا رقبہ جس میں ایک دن میں ہل چلایا گیا ہو (عامی زبان میں)

۳۔ الكَدْنُ والكِدْنُ ج كُدُونٌ: جانور کی ٹانگ کی کھال جس کو دباغت دینے کے بعد دوا وغیرہ کوٹنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ الكَدَنُ: مٹیالہ۔ الكَدِنُ مونث كَدِنَةٌ ج كَدِنَاتٌ: بہت چربی اور گوشت والا۔ الكِدْنَةُ: کوہان ـــ والكُدْنَةُ: چربی اور گوشت کی بہتات ـــ الكَدَانَةَ: نااہلی فرومائیگی۔ الكَدَّانُ: نرم پتھر (یہ كَذَّان کی تحریف ہے)۔ اس کے ایک ٹکڑے کو كَدَّانَة کہتے ہیں۔

كده: كَدَهَ ـَ كَدْهًا الشيئَ: کو توڑنا۔ ـــ ہ بالحجر: کو پتھر سے سخت رگڑنا ـــ شعرَهُ بالمشط: بالوں میں کنگھی سے مانگ نکالنا ـــ لاهله: مشقت سے عیال کیلئے کمائی کرنا۔ ـــ ہُ الهمُّ: کو غم کا مشقت میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے۔ "هو مكدوه من الهم": (وہ غم کی وجہ سے غمگین ہے)۔ ـــ عليه: پر غالب ہونا۔ كَدَّهَ الشيئَ: کو توڑنا۔ ـــ ہ بالحجر: کو پتھر سے سخت رگڑنا۔ ہُ الهمُّ: کو غم کا مشقت میں ڈالنا۔ ـ عليه: پر غالب آنا۔ تَكَدَّهَ: ٹوٹنا۔ الكَادِهُ (فا) ج كُدَّهٌ: توڑنے والا۔ الكَدْهُ (مص) ج كُدُوهٌ: پتھر کی رگڑ کا اثر۔

كدو: كَدَا يَكْدُو كَدْوًا و كُدُوًّا الزرعُ: خراب فصل ہونا۔ ـــ ت الارضُ: کے پودوں کا دیر سے اگنا۔ ـــ كِدَاءً الشيئَ: کو کاٹنا، کو منع کرنا۔

كَدِيَ يَكْدَى كَدًى بالعظم: ہڈی کا گلے میں اٹکنا۔ ـــ المسكُ: بے خوشبو ہونا صفت كَدٍ و كَدِيٌّ۔ ـــ ت اصابعُهُ: کی انگلیوں کا کھودنے کی وجہ سے تھکنا۔ تكَدَّى تَكَدِّيًا: مشقت برداشت کرنا۔

كَدَى: ۱۔ كَدَى يَكْدِي كَدْيًا الرجُلُ: دینے میں بخل کرنا۔ ـــ الرجُلَ: کو روکنا مشغول کرنا۔ كَدَّى

تکدیۃً: سوال کرنا، خیرات مانگنا۔ اَکْدٰی اِکْداءً: دینے میں بخل کرنا۔۔۔ المطرُ: بارش کم ہونا۔۔۔ العام: خشک سالی ہونا۔ المعدنُ: جوہر نہ بنانا۔ السنۃ: سردی کی وجہ سے چھوٹا ہونا۔۔۔ الرجلُ: مالدار ہونے کے بعد محتاج ہونا۔ حاجت میں ناکام رہنا۔ الحافرُ: کھودتے کھودتے سخت زمین پر پہنچنا اور آگے نہ کھود سکنا، کہا جاتا ہے۔ حفَرَ فاکدی: یعنی اس نے اسے کھودا تو سخت زمین پایا، ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ سألہ فاکدی: یعنی اس نے اس سے سوال کیا تو اسے سخت زمین کی مانند پایا۔۔۔ ہ عن کذا: کو سے باز رکھنا، منع کرنا۔ تکدّی تکدّیًا: عطیہ طلب کرنا اور سوال کرنے میں تکلف کرنا۔ الکادیۃ: زمانہ کی سختی۔ الکُدْیۃُ ج کُدًی: عطیہ طلب کرنا، باصرار مانگنے کا پیشہ، سخت ٹھوس زمین، بڑی سخت چٹان، زمانے کی سختی۔

۲۔ کَدٰی یَکْدِیُ کَدْیًا الوجہَ: چہرے میں خراش لگانا۔

۳۔ الکُدْیۃُ، والکَداۃُ والکُدایۃُ: مٹی یا غلے کا ڈھیر۔

کذ: کَذَّ ۔۔ کَذًّا: کھردرا ہونا۔ اَکَذَّ: نرم پتھر پر چلنا۔ الکَذّانُ واحد کَذّانۃ: نرم پتھر۔

کذب: کَذَبَ ۔۔ کِذْبًا و کِذِبًا و کَذِبۃً و کِذْبۃً و کِذابًا و کِذّابًا: جھوٹ بولنا، جان بوجھ کر غلط خبر دینا۔۔۔ تِ العینُ: دھوکہ دینا۔۔۔ الرایُ: خلاف واقعہ ہونا، کہا جاتا ہے۔ کَذَبَتْکَ عینُکَ: یعنی تیری نظر نے تجھے دھوکہ دیا۔ کَذَبَ السیرَ: چلنے میں کوشش نہ کرنا۔ کذب القومُ السُّرٰی: لوگ رات کو چلنے پر قادر نہیں ہوئے، یہ کبھی دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے کہا جاتا ہے۔ کذبۃُ الحدیثَ جبکہ غلط خبر دے اور خلاف واقعہ بیان کرے اور مشدد ہونے کی صورت میں صرف ایک ہی مفعول آتا ہے۔ کُذِبَ الرجلُ: جھوٹی خبر دیا جانا۔ کذّب ہٗ: کو جھوٹا بنانا، جھوٹ کی طرف نسبت کرنا۔۔۔ ہ نفسَہٗ: جھوٹ بولنے کا اقرار کرنا۔۔۔ عن فلان: فلاں کی طرف سے جواب دینا۔۔۔ عن امر اَرادَہٗ: سے رک جانا۔۔۔ عنّا الحرُّ: سے گرمی کا کم ہونا کہا جاتا ہے مَا کَذَّبَ ان فعل کذا: یعنی اس نے ایسا کرنے میں دیر نہیں کی۔۔۔ تکذیبًا و کِذّابًا بالامر: کا انکار کرنا، کہا جاتا ہے۔ کَذَّبَ بآیاتِ ربّہٖ: اس نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا۔ کاذَبَ کِذابًا و مُکاذَبۃً ہٗ: کسی کو یہ کہنا کہ تو نے جھوٹ کہا ہے۔ اَکْذَبَ ہٗ: کو جھوٹ پر آمادہ کرنا۔ کو جھوٹا پانا۔ کا جھوٹ ظاہر کرنا۔۔۔ نفسَہٗ: جھوٹ بولنے کا اقرار کرنا کہا جاتا ہے اَکْذَبَ فلانٌ: جبکہ اسے آواز دی جائے اور وہ خاموش پڑا رہے یہ ظاہر کرے گویا وہ سویا ہوا ہے اس سے اسم الاِکْذاب ہے تَکَذَّبَ: بتکلف جھوٹ بولنا۔۔۔ فلانًا و علیہ: کو جھوٹا سمجھنا۔ تکاذَبَ القومُ: ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا۔ الکاذِبُ ج کَذَبۃٌ و کُذّابٌ و کُذُبٌ (فا): جھوٹا۔ الکاذِبۃُ ج کاذِباتٌ و کَواذِبُ: جھوٹی، جھوٹ۔ الکِذّابُ بتثلیث الکاف و الکُذْبٰی و الکُذْبانُ: جھوٹ۔ الکَذّابُ و الکُذَبۃُ و التِّکِذّابُ و المَکْذَبانُ و المَکْذَبانۃُ: بڑا جھوٹا۔ الکَذّابۃُ: مختلف رنگوں سے منقش کیا ہوا کپڑا جو ایسا دکھائی دے جیسے اس پر اصلی نقش ونگاری کی گئی ہے۔ الکَذُوبُ: نفس۔ (کیونکہ یہ انسان کو ایسی چیزوں کی آرزو دلاتا ہے جو انسان کی پہنچ اور بساط سے باہر ہوتے ہیں)۔۔۔ ج کُذُبٌ و الکَذْبانُ و الکَیْذَبانُ و الکَیْذُبانُ: بڑا جھوٹا۔ الکَذُوبۃُ: بڑا جھوٹا، نفس۔ الاُکْذُوبۃُ ج اَکاذِیبُ: جھوٹ۔ التَّکاذِیبُ: لغو، باطل باتیں۔ المَکْذَبۃُ والمَکْذُبۃُ ج مَکاذِبُ والمَکْذُوبُ والمَکْذُوبۃُ ج مَکاذِیبُ: جھوٹ۔

○ کَذَبَ ۔ کِذْبًا و کَذِبًا و کَذْبۃً و کِذْبۃً: جھوٹ بولنا، دھوکا دینا، گمراہ کرنا، بہکانا۔۔۔ ہ/ علی: سے جھوٹ بولنا۔ کذّب ہ: کو جھوٹا کہنا، پر جھوٹ کا الزام لگانا، پر یقین نہ کرنا، کی بات کو باور نہ کرنا۔۔۔ ب/ ہ: کو غلط ثابت کرنا، کو تسلیم نہ کرنا، کو ماننے یا پہچاننے سے انکار کرنا، کی تردید کرنا۔ ما کَذَّبَ اَن فعل: وہ ایسا کرنے میں نہ ہچکچایا۔ اَکْذَبَ ہ: سے جھوٹ بلوانا، کو جھوٹا کہنا، کو جھوٹا ثابت کرنا۔ پر جھوٹ کا الزام لگانا۔

کِذْب و کَذِب و کَذْبۃ و کِذْبۃ: جھوٹ، فریب، دھوکا، چال، داؤ، مکر، دغا، دروغ۔ کذب، کذبۃ ابریل: اپریل فول کا مذاق کَذُوب: جھوٹا۔ کذّاب: جھوٹا، ٹھگ، دھوکے باز، عیار، فریبی، اُکْذُوبۃ جمع اکاذیب: جھوٹ۔ اَکْذَب: زیادہ جھوٹا۔ اکذب من مُسَیْلِمَۃ: مسیلمہ سے زیادہ جھوٹا (بالعموم) تکذیب: رد، تردید، تکذیب، انکار، تسلیم کرنے سے انکار۔ کاذِب: جھوٹا، دروغ گو، مغالطہ یا دھوکے میں ڈالنے والی (چیز) مغالطہ آمیز، پرفریب، بظاہر صحیح، بناوٹی، مصنوعی، فرضی، جھوٹ موٹ، امل کاذب: مغالطہ آمیز امید، بلاغ کاذب: بہتان، تہمت، اتہام، رسوائی، بدنامی، ہتک عزت۔ مَکْذُوب: جھوٹ، غلط، گھڑی ہوئی (بات) جھوٹا (الزام وغیرہ)۔

کذو: کَذا: یہ دو طریقوں سے مستعمل ہے۔

۱۔ یہ کہ دونوں کلمے کاف حرف تشبیہ اور ذا اسم اشارہ اپنی اصل حالت پر ہیں جیسے رأیت زیدا فاضلا و رأیتُ عمراً کذا: نیز اس پر ھا تنبیہ داخل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ ھٰکذا

۲۔ یہ کہ کلمہ انہیں دونوں کلموں سے مرکب ہو لیکن عدد سے کنایہ ہو جیسے قبضت کذا و کذا درھما یا غیر عدد سے جیسے بمکان کذا و کذا یعنی کسی ایک جگہ پر۔ دیکھو ○ ک۔

کرّ: ۱۔ کَرَّ ۔۔ کُرُورًا: لوٹنا، مڑنا، کہا جاتا ہے۔ انھزم عنہ ثم کر علیہ: یعنی اس نے فلاں سے شکست کھائی اور پھر لوٹ پڑا، پینترا بدلنے کے لئے بھاگنا پھر دوبارہ حملہ کرنا صفت کَرّار اور اسی سے کہا جاتا ہے۔ الجواد یصلح للکرّ و الفرّ: (گھوڑا گھومنے اور حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے)۔ ۔۔ اللیلُ والنھارُ: رات دن کا باری باری آنا۔ کَرًّا و کُرُورًا و تَکْرارًا الفارسُ علی العدو: شہسوار کا دشمن پر حملہ کرنا اور ٹوٹ پڑنا۔۔۔ کَرِیرًا المریضُ: جان دینا۔ کَرَّ ۔۔ کَرًّا صدرُہ: سے گلا گھٹے ہوئے کی آواز نکلنا۔ کَرَّرَ تَکْرارًا و تَکْرِیرًا و تَکْرِرَۃً الشیئَ: کو بار بار کرنا۔ تَکَرَّرَ: بار بار ہونا۔ الکَرَّۃُ ج کَرّاتٌ: لڑائی میں حملہ، صبح وشام کو کرتان اور قرتان کہتے ہیں۔ الکَرّارُ: لڑائی میں بہت زیادہ حملہ کرنے والا۔ الکُرّٰی: لڑائی میں حملہ الکَرِیرُ (مص) گلا گھٹنے ہوئے کی طرح سینے کی آواز، گرد و غبار کی وجہ سے گلو گرفتگی۔ المَکَرُّ: لڑائی میں حملہ کی جگہ۔ المِکَرُّ: لڑائی میں بہت زیادہ حملہ کرنیوالا کہا جاتا ہے۔ فرس مِکَرٌّ مِفَرٌّ: ایسا سدھایا ہوا گھوڑا کہ حملہ کے وقت حملہ کرے اور سوار بھاگنے کا ارادہ کرے تو اسے لے کر بھاگ جائے۔ ناقۃٌ مِکَرَّۃٌ: وہ اونٹنی جس کو دن میں دو مرتبہ دوہا جائے۔

۲۔ الکُرُّ ج کِرارٌ: کنواں۔۔۔ ج اَکْرارٌ: ایک پیمانہ کا نام (عبرانیہ) چادر۔ الکَرُّ: ج کُرُورٌ: کھجور کے پتوں کی رسی۔ کھجور کے درخت پر چڑھنے کی رسی، جہاز کا رسا۔۔۔ الکُرُّ ج کِرارٌ: کنواں و۔۔۔ ج اَکْرارٌ و کُرُورٌ: نماز پڑھنے کے لئے مصلّٰی۔ الکَرَّۃُ: سڑی ہوئی مینگنیاں جس سے زرہ کو صاف کرتے ہیں۔۔۔ و ۔۔۔ ج کَرّاتٌ (ع ح): ایک لاکھ۔

۳۔ کَرْکَرَ کَرْکَرَۃً الشیئَ: کو بار بار دوہرانا۔ ۔۔۔ الرحی: چکی گھمانا۔۔۔ الحَبَّ: دانے پیسنا۔ الرجلُ: ہنسنا۔۔۔ فی الضحک: بہت زیادہ ہنسنا۔

بالدجاجة: مرغی کو بلانا۔ تکَرْکَرَ فی الامر: میں مضطرب ہونا۔۔۔ الماءُ: اپنے بہنے کی جگہ پر لوٹ جانا ۔۔۔ الطائرُ: ہوا میں منڈلانا۔ الکَرْکَرَةُ: پیٹ کی گڑگڑاہٹ۔ الکُرْکُورَةَ: گہری وادی۔

۴۔ کَرْکَرَ کَرْکَرَةً الشیئَ: کو جمع کرنا۔۔۔ ت الریاحُ السحابَ: ہوا کا بادلوں کو منتشر ہونے کے بعد اکٹھا کرنا، یا بادلوں کو پھیرنا۔ الکِرْکِرَةُ ج کَرَاکِرُ: لوگوں کی جماعت۔ الکَراکِرُ: گھوڑے کے جوڑ۔

۵۔ کَرْکَرَ کَرْکَرَةَ الرجُلَ: کو روکنا۔۔۔ الرجُلُ: شکست کھانا۔۔۔ الامرَ عنه: کو سے دفع کرنا، رد کرنا، ہٹانا۔

۶۔ الکَرْکَرُ (ح): ایک آبی پرندہ۔ الکَرْکَرَةُ: گاڑھا دودھ۔ الکِرْکِرَةُ ج کَرَاکِرُ: چوپائے کا سینہ۔

○ کَرَّ ۔ کَرًّا و کُرُورًا و تکرارًا علی: کسی شخص یا چیز پر رخ بدل کر حملہ کرنا۔۔۔: مڑنا واپس آنا، پھر ہونا، پسپا ہونا۔ علی: پر حملہ کرنا، کو پچھاڑنا، زیر کرنا۔۔۔ کَرِیرًا: گلے میں کھڑ کھڑ کرنا۔ کَرَّرَهٗ: کو دہرانا، دوبارہ کرنا، بار بار کرنا۔۔۔ ہٗ علی: بار بار کسی سے سوال کرنا۔ علی ہٗ: سے بار بار کوئی سوال کرنا۔ ہٗ: کی توضیح کرنا کو واضح کرنا، صاف کرنا، صاف یا شفاف کرنا، کی تصحیح کرنا، کو پاک کرنا، خالص بنانا (چینی وغیرہ) کو مصفے کرنا، نتھارنا۔ تَکَرَّرَ: دہرایا جانا، پھر ہونا، مکرر کیا جانا، بار بار کہا جانا یا کیا جانا۔ خالص بنایا جانا۔ مُصَفّٰی کیا جانا۔ خالص کیا جانا۔ نتھرنا۔ کَرّ: حملہ الکَرّ والفرّ: (میدان جنگ میں) حملہ اور پسپائی بینَ کَرٍّ و فرٍّ: ایک ایک کر کے، باری باری سے، اپنی اپنی باری سے، رہ رہ کر، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کرنا، کبھی کم کبھی زیادہ، جھٹکوں سے، علی کَرّ الدھور اور علی کَرّ الزمَنِ: دوران وقت میں۔ کَرَّة: حملہ، واپسی، اعادہ، بار بار ہونا، ۔۔۔ جمع کَرَّات: ایک وقت، ایکبار، ایک لاکھ، کَرَّةً: ایک بار، ایک دفعہ ایک مرتبہ، کبھی کبھی، کبھی کبھار، گاہے گاہے، بعض اوقات۔ کَرَّةً اُخرَی: دوبارہ، ایکبار دفعہ پھر۔ کَرَّةً بَعْدَ کَرَّةٍ: بار بار، اکثر، کُرُور: واپسی، اعادہ، بار بار ہونا۔ کے بعد ہونا، کے بعد آنا، سلسلہ، ترتیب۔ کُرَّارِیَة جمع کُرَّارِیَات: ریل، دھاگے کی نلکی، مَکَرّ جمع مَکَرَّات: ریل تکریر: دہرانا، اعادہ، بار بار دہرانا، وضاحت، تصحیح، صفائی، مصفی کرنا مَعْمَل تکریرِ السُّکَّر: چینی صاف کرنے کا کارخانہ۔ تَکْرَار: دہرانا اعادہ، بار بار دہرانا تَکْرَارًا: بار بار، مکرر، تکرار سے، تواتر سے، اکثر، بیشتر، کئی بار، مرارًا و تکرارًا: بار بار، اکثر، مُکَرَّر: دہرایا ہوا، بار بار دہرایا ہوا، دو بار کے بعد، ایسا عدد جو دوسرے سے پورا پورا تقسیم ہو جائے، تصحیح شدہ، صاف کیا ہوا پاک کیا ہوا، سُکَّر مُکَرَّر: صاف کی ہوئی چینی۔ مُتَکَرِّر: بار بار ہونے والا، بار بار کہا ہوا، بار بار کیا ہوا، مکرر کیا ہوا، دہرایا ہوا، متعدد بار، اکثر، اکثر اوقات، بار بار واقع ہونے والا۔

○ کَرَاج جمع کراجات: گیراج Garage

○ کَرَار جمع کرارات: مودی خانہ، نعمت خانہ، بھنڈارہ، توشہ خانہ، خانہ جہاں مختلف اشیاء رکھی جاتی ہیں۔

○ کَرَافَتة: نیک ٹائی، پرانی وضع کا گلوبند۔

○ کَرَاکُوفِیَا: جنوبی پولینڈ کے ایک شہر کا نام (Cracow)

○ کَرَامِیل: سوختہ شکر کی مٹھائی۔

کرب: ۱۔ کَرَبَ ۔ کَرْبًا القَیْدَ علی المقیَّد: قیدی پر بیڑی کو تنگ کرنا۔۔۔ الحبلَ: رسی بٹنا۔۔۔ الدلوَ: ڈول کے دستہ میں چھوٹی رسی باندھنا۔۔۔ ہٗ الامرُ: پر معاملہ کا دشوار ہونا۔۔۔ ہٗ الغمُّ: کو سخت غم ہونا۔۔۔ کُرُوبًا الفاقةَ: کو بوجھل کرنا۔ کَرِبَ ۔ کَرَبًا الرجُلُ: ڈول کے دستہ کی ٹوٹی ہوئی رسی والا ہونا۔ کَرِبَ: کو غم لاحق ہونا۔ کَرَّبَ الدلوَ: ڈول کے دستہ پر چھوٹی سی رسی باندھنا۔ اِکْتَرَبَ اِکْتِرَابًا واِکْرَأَبَّ اِکْرِئْبَابًا: سخت غمگین ہونا۔ الکَرْبُ ج کُرُوبٌ، والکَرْبَةُ ج کُرَبٌ: غم اور مشقت الکَرَبُ واحد کَرَبَةٌ: ڈول کے دستہ پر کی چھوٹی رسی۔ الکَرَبَةُ ج کَرَبٌ: گول لکڑی جس میں خیمہ کے ڈنڈے کا سرا رکھا جاتا ہے۔ الکَرَابَةُ ج کَرَائِبُ: سخت مصیبت۔ الکَرِیبُ: مغموم، غمگین۔ الکَرِیبَةُ ج کَرَائِبُ (مونث الکَرِیبُ کا) سخت مصیبت۔ المُکْرَبُ: مضبوط رسی یا عمارت یا جوڑ وغیرہ۔۔۔ من المفاصل: پٹھوں سے بھرا ہوا۔ حَافِرٌ مُکْرَبٌ: مضبوط کھر۔ المَکْرُوبُ: غمگین۔

۲۔ کَرَبَ ۔ کُرُوبًا: قریب ہونا۔۔۔ ت النارُ: آگ بجھنے لگنا۔ ت الشمسُ: آفتاب ڈوبنے کے قریب ہونا۔۔۔ فلانٌ: کھجور کے تنے کے قریب گری ہوئی کھجوریں کھانا، کہا جاتا ہے کَرَبَ یفعَلُ یعنی وہ کرنے لگا، اس صورت میں یہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔۔۔ کَرْبًا فلانٌ: گری ہوئی کھجوریں لینا۔ کَرَّبَ الرجُلُ: چنی ہوئی کھجوریں کھانا۔ کَارَبَ مُکَارَبَةً وکِرَابًا ہٗ: کے قریب ہونا۔ اَکْرَبَ: قریب ہونا۔ الامرُ: قریب الوقوع ہونا۔۔۔ الاناءَ: برتن بھرنے کے قریب ہونا۔۔۔ القربةَ: مشک بھرنا۔۔۔ فی السیر: دوڑنا۔ تَکَرَّبَ: تنہ کے قریب کی کھجوریں چننا۔ الکَرَبُ واحد کَرَبَةٌ: کھجور کی ٹہنی کی موٹی چوڑی جڑیں۔ الکُرَابَةُ، والکَرَابَةُ ج اَکْرِبَةٌ: کھجور جو ٹہنی کی جڑ سے کٹنے کے بعد چنی جائے الاکْرَابُ (مص): جلد بازی، تم کہتے ہو۔ خذ رجلیك باکراب: یعنی جانے میں جلدی کرو۔ الکَرُوبِیُّونَ والکَرُوبِیَّةُ واحد کَرُوبٌ: اور کبھی کاف کو شین سے بدل دیا جاتا ہے: یا اشرف ملائکہ یا مقرب فرشتے۔ عبرانی زبان میں کُرُوبِیْمْ کہتے ہیں اور کبھی عبرانی لفظ کو ہی استعمال کرتے ہیں۔

۳۔ کَرَبَ ۔ کُرُوبًا: بے درخت اور بے پانی والی زمین میں کھیتی باڑی کرنا۔۔۔ کَرْبًا وکِرَابًا الارضَ للزرع: کھیتی کے لئے زمین میں کھیتی باڑی کرنا۔ کَرَّبَ الرجُلُ: بمعنی کَرَبَ ۔ کُرُوبا: الکَرِیبُ من الارض: بغیر پانی و بغیر درخت کے زمین۔

۴۔ الکَرَابُ واحد کَرَبَةٌ: وادی میں پانی بہنے کی جگہیں، کہا جاتا ہے۔ مَا بالدار کَرَّابٌ: یعنی گھر میں کوئی نہیں۔ الکَرِیبُ: بانس کی گرہ، نانبائی کا بیلن۔ المِکْرُوبُ: (طب) ایسی زندہ کائنات جو دوربین یا خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتی، یک خلیہ جو پانی، خون یا ہوا میں ہوتا ہے یہ متعدی امراض والے مریضوں سے تندرست لوگوں کو بیماریاں منتقل کرتا ہے خلیہ یونانی لفظ ہے جس کو عربی میں جرثومہ کہتے ہیں۔

۵۔ الکُرْبَجُ ج کَرَابِجُ: دکان یا دکان کا سامان۔ الکِرْبَاجُ: کوڑا (فارسی لفظ)۔ الکَرَابِیجُ: (ط) چند معجونوں کو ملا کر بنایا ہوا حلوہ جس کو گڈ ریوڑی کے ساتھ ملا کر کھایا جاتا ہے اسے کرابیج حلب: بھی کہا جاتا ہے۔

۶۔ کَرْبَدَ فی عَدْوِہٖ: تیز دوڑنا۔ دوڑنے میں کوشش کرنا۔

۷۔ کَرْبَسَ: بیڑی پہنے ہوئے کی طرح چلنا۔ تَکَرْبَسَ من ظهر فرسه: گھوڑے کی پیٹھ سے گر جانا۔ الکِرْبَاسُ ج کرابیس: کھردرا کپڑا، شراب چھاننے کی چیز۔ رَجُلٌ مُکَرْبَسُ الرَّاسِ: گول سر والا مرد۔

۸۔ کَرْبَشَ: چھلانگ لگانے کے لئے ٹانگوں کو اکٹھا کرنا۔ بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا۔ الشیئَ: کو لپیٹنا اور باندھنا۔ تکَرْبَشَ الجلدُ: کھال کا سکڑنا۔

۹۔ کَرْبَعَ ہٗ: کو پچھاڑنا۔۔۔ الشیئَ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا۔۔۔ قوائمه: کی ٹانگیں جدا کرنا۔ تکَرْبَعَ:

چوتڑوں کے بل گرنا۔

۱۰۔ کَـربَـلَ: کیچڑ میں چلنا، پانی میں گھسنا۔ الشیء بالتبن: کو سے ملانا۔ ــــ الحنطة: گندم چھاننا، صاف کرنا۔ الکِربَال ج کَرابِیلُ: گندم صاف کرنے والا اچھلنا، روئی دھننے کی کمان۔ الکَـربَلَۃُ (مص): پاؤں کی سستی، کہاجاتا ہے۔ جَاءَ یَمشِی مُـکَربِلاً: یعنی وہ اس طرح آیا گویا کیچڑ میں چل رہا ہے۔

۱۱۔ الکَربُونُ او الفحیم (ك): ایک مفرد جسم جو کہ کوئلہ بنانے کی تمام اقسام کا بنیادی عنصر ہے، تمام زندہ کائنات کی ترکیب میں دخل رکھتا ہے الماس ایک صاف بلوری عنصر ہے۔ الکَربُونَاتُ: ایک سفید رنگ کا سفوف کاربونک ایسڈ Carbonic acid اور ایک اور جسم سے مرکب ہے (یونانی)۔

○ کَرَبَ ــ کَرباً ہ: کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا، مغموم کرنا، تشویش میں مبتلا کرنا، ستانا۔ ــ ہ: جانور پر بہت زیادہ بوجھ لاد دینا۔ أَکرَبَ: جلدی کرنا، دوڑنا، دوڑ پڑنا۔ اِنکَرَبَ و اِکتَرَبَ: پریشان ہونا، رنجیدہ ہونا، مصیبت زدہ ہونا، تکلیف زدہ ہونا، بے چین ہونا، متفکر ہونا، بے تاب ہونا، اندیشناک ہونا، خائف ہونا، کَربٌ جمع کُرُوب: پریشانی تشویش، غم، افسوس، رنج، آزردگی، ملال، الم، مصیبت، تکلیف، اندیشہ، چنتا، تردد، فکر، خوف، خدشہ، تشویش، پریشانی، بے چینی، اضطراب، عذاب، اذیت، دماغی الجھن، ذہنی کرب۔ کُربَۃ جمع کُرَب: بمعنی کَـرب۔ مَکرُوب و مُکتَرِب: غمگین، پریشان، رنجیدہ، ملول، غم زدہ، آزردہ، تکلیف زدہ، مصیبت زدہ، خائف، بے چین، متفکر، بے تاب، ڈرا ہوا، دہشت زدہ، خوف زدہ، بوکھلایا ہوا، گھبرایا ہوا۔

○ کَـرِب: کریب (سیاہ، ریشم یا روئی کا شکن دار کپڑا وغیرہ)

○ کَرُوب و کُرُوبی جمع کَرُوبِیُون و کَارُوبِیم: فرشتہ اعظم

○ کُرباج و کِرباج جمع کَرابیج: کوڑا، درّہ۔

○ کِرباس جمع کَرَابِیس: سفید روئی کا کپڑا۔

○ کِربال جمع کَـرَابِیل: روئی تومننے کی کمان، موٹے سوراخوں والی چھلنی۔

○ کَربَلا: عراق کے ایک شہر کا نام۔

○ کَربُون: کوئلہ ورق کربون: کاربن پیپر۔

○ کُرّات (کُرّاث): پیاز کا سا پودا، گندنا۔

○ اَکرَت: کھتی دار یا بل دار (بال) پیچ دار (بال) گھونگر والے (بال)

○ کَـرتَـنَ علی: کو قرنطینہ میں رکھنا، لمبی قید میں رکھنا۔ تکرتن: قرنطینہ میں رکھا ہوا ہونا۔

○ کَرتُون جمع کَراتِین: گتا، گتے کا ڈبہ۔

کرت: کَرتَحَ ہُ: کو پچھاڑنا، تـکَرتَـحَ فی مشیہ: تیزی سے گزر جانا۔

کرث: ۱۔ کَرَثَ ــ کَرثاً و اکرَثَ الغمُّ فلاناً: کو سخت غمگین کرنا۔ اِکتَرَثَ بـالامر: کی پرواہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ هـو لا یکترث لهذا الامر: وہ اس معاملہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ اِنـکَرَثَ الحبلُ: رسی کا ٹوٹنا۔ الکَارِثُ مونث کَارِثَۃ ج کَوَارِث: غم انگیز معاملہ۔ الکَرِیثُ: غم انگیز معاملہ کہا جاتا ہے۔ انهٔ لکریث الامر: جبکہ بزدلی کرے اور پیچھے ہٹے۔

۲۔ الکُرّاثُ و الکَرّاثُ واحد کَرَّاثَۃ: گندنا، بدبودار قسم کی سبزی، جس کی بعض قسمیں لہسن سے مشابہ ہوتی ہیں بعض قسمیں سالانہ ہوتی ہیں اور بعض اس سے بھی زیادہ دیر تک رہتی ہیں یہ ان علاقوں میں ہوتی ہیں جن کی آب و ہوا معتدل ہوتی ہے اس کے تنے کو پکا کر کھایا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے پیشاب زیادہ آتا ہے۔ الاَندَلُسِیّ او القُفلُوط: یہ ایک قسم کی سبزی ہے اس کا حجم بہت چھوٹا ہوتا ہے مشرق وسطی میں کم کاشت کی جاتی ہے اس کا چھلکا مسالہ بنانے کے کام آتا ہے اس کے پتوں کو۔ سلاد میں ملایا جاسکتا ہے۔

۳۔ کَرِثَ و تکَرثاً الشَعرُ ونحوہُ: بال وغیرہ کا گنجان ہونا۔ الکِرثِیُّ: تہ بتہ بادل، انڈے کے اوپر کا چھلکا۔ الکِرثِئَۃُ و الکِرثَاۃُ: گنجان سبزی۔

○ کَرَثَ ــ کَرثاً ہُ: کو افسردہ کرنا، پریشانی میں ڈالنا، تشویش میں ڈالنا، مغموم کرنا، تکلیف دینا، پر دباؤ ڈالنا، کو ایذا دینا، اَکرَثَ ہ بمعنی کَرَثَ ہ۔ اِکتَرَثَ ل: کی نگہداشت کرنا، پر توجہ دینا، میں دل چسپی لینا۔ کَـرِیث: افسردہ، پریشان، تشویش میں مبتلا، تکلیف زدہ، روحانی اذیت میں مبتلا، تشویش زدہ، مصیبت میں مبتلا، تنگ کیا ہوا، ناراض کیا ہوا کَـرّاث و کُـرّاث (بمعنی کُـرّات) پیاز کا سا پودا، گندنا۔ اِکتـراث: توجہ، نگہداشت، دلچسپی، التفات، دھیان، فکر، تشویش۔ کـارِث: دباؤ ڈالنے والا، جابرانہ، ظالمانہ، تکلیف دہ، دردانگیز، ضرر رساں، قِلّۃُ الاکتراث: بے اعتنائی، بے توجہی، عدم دلچسپی کَارِثَۃ جمع کَوَارِث: شامت، آفت، عظیم تباہی، کـارِثَۃُ الامطار: قدرتی آفت، تیز و تند بارشیں۔

کرج: کَـرَجَ ــ کَرَجاً و کَرِجَ واَکرَجَ و تکرَّجَ الخبزُ: خراب ہونا اور اس کے اوپر پھپھوندی لگنا عوام اسے عـفَن سے تعبیر کرتے ہیں۔ الـکُرجُ واحد کُرجِیٌّ: لوگوں کی ایک قوم ــ والکُرَّجُ: بچھیرے کی شکل کی ایک چیز جس پر کھیلتے ہیں (فارسی)۔ الکُرَّجِیُّ: مخنث، ہیجڑا۔

کرح: الکُرحُ ج اَکرَاحٌ: راہب کی کوٹھڑی (سریانی)

کرخ: کَرخَ ــ کَرخاً الماءَ الی مواضعه: کو اس کی جگہوں کی طرف چلانا۔ الـکَرخَانَۃُ: کارخانہ۔ مولدین قحبہ خانہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ (فارسی)

کرد: ۱۔ کَرَدَ ــ کَردًا الدابۃَ: کو ہانکنا۔ ــ العدوَّ: دشمن کو ہٹانا۔ کَارَدَ مُکَارَدَۃً ہ: کو دفع کرنا۔ ہٹانا۔

۲۔ کَـرَدَ ــ کَردًا الشَیءَ: کو کاٹنا۔ الکَردُ: گردن کی جڑ کہا جاتا ہے۔ اَخذَہُ بِکَردِہٖ اَوبِکَردَنِہٖ: اس نے اس کی گردن کو پکڑ لیا۔ کی جڑ (گدی)

۳۔ کَردَحَ: پستہ قد شخص کی طرح دوڑنا۔ تَکَردَحَ فی عَـدوِہٖ: پستہ قد شخص کی طرح دوڑنا۔ جیسے لڑھک رہا ہو۔ الکُرَادِحُ: پستہ قد شخص۔ الکِردَاحُ: دوڑنے میں قریب قریب قدم رکھنے والا۔ الکَردَحَۃُ (مص): تیز دوڑ۔

۴۔ کَردَحَ فلاناً: کو پچھاڑنا۔

۵۔ الکِردِحُ: مضبوط مرد۔ بڑھیا۔ المُکَردَحُ: ذلیل و خوار۔

۶۔ کَـردَسَ: بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا۔ ــــ الخیلَ: گھوڑوں کو جمع کرنا اور دستہ دستہ بنانا۔ ــــ الشیءَ: کو باندھنا اور بیڑی ڈالنا۔ کُـردِسَ الرجلُ: کے ہاتھ پاؤں اکٹھا باندھا جانا۔ تکَردَسَ: سکڑنا اور بعض کا بعض پر جمع ہونا۔ الـکُـردُومُ: کندھے کی ہڈی۔ الـکُـردُومَۃُ ج کَـرَادِسُ و کَـرَادِیـسُ: ہر ہڈی جس پر گوشت ہو۔ ہر جوڑ کی دونوں ہڈیاں، گھوڑوں کا بڑا گلہ۔ کَرَادِیسُ الفَرَسِ: گھوڑے کے جوڑ۔ المُکَردَسُ: گٹھے بدن والا اصل میں یہ یونانی لفظ تھا اسے عربی بنایا گیا ہے۔

۷۔ کَـردَسَ الحمارَ: گدھے کو تیز ہانکنا۔ ــــ ہ: کو پچھاڑنا۔

۸۔ کَردَمَ: موٹے پستہ قد کی طرح دوڑنا۔ ــ القومَ: کو جمع کرنا۔ تکَردَمَ: گھبرا کر دوڑنا۔ الکَردَمُ ج کَرادِم: بہادر۔ ــ من الرجال: موٹا پستہ قد۔ الکُردُومُ من الرجال ج کَرادِیمُ: موٹا پستہ قد۔

۹۔ الکَردِینَالُ ج کَرَادِلَۃُ: (کارڈینال) گرجا کا ایک

اونچا عہدہ۔

○ الکُرد: کرد لوگ بلاد الکُرد: کردستان کُردِی: کردی جمع اکراد: کرد لوگ جبلُ الاکراد: کردی پہاڑیاں، کردستان۔ کَرْدَس ھ: کا ڈھیر لگانا۔ — ھ/ ھ: کو کھچا کھچ بھرنا، کا ہجوم کرنا۔

○ کِردان جمع کَرادِین: ہار، چمپاکلی۔

کرز: کَرَزَ۔ کُرُوزًا: داخل ہونا، پوشیدہ ہونا۔ — الی فلان: کی پناہ لینا۔ کارَزَ مُکارَزَۃً الی المکان: دوڑ کر مکان میں چھپنا۔ — عنہ: سے بھاگنا۔ — ھ: سے بھاگنا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ الکُرزُ ج اَکراز و کِرَزَۃ: چرواہے کا تھیلا، چھوٹی بوری۔ الکُرَازُ ج کِرزانُ والکُرَّازُ: شیشی، تنگ سر والا کوزہ۔ الکَرَّازُ ج کَرارِیزُ (ح) چرواہے کا تھیلا اٹھانے والا بے سینگ کا مینڈھا کیونکہ سینگوں والا مینڈھا سینگوں سے ٹکراتا رہتا ہے۔ — من المعز: گھنٹی دار بکری جس کے پیچھے ریوڑ چلتا ہے۔

۲۔ کَرَزَ — کَرْزًا: وعظ کرنا اور انجیل کی بشارتیں سنانا۔ (سریانی)۔ الکارِزُ والکَارُوزُ: انجیل کا واعظ۔ الکِرازۃُ: مسیحی حقائق کا وعظ۔

۳۔ کَرَّزَ البازِیَ: باز کو سدھانے کے لئے آنکھوں کو سینا اور کھلانا حتی کہ وہ سیکھ جائے۔ الکُرَّزُ ج کَرارِزَۃ (ح): باز۔ و الکُرَّزِیُّ والمُکَرَّزُ: لئیم، خبیث۔

۴۔ کُرِّزَ البازِی: باز کے پروں کا گرنا۔ کارَزَ مُکارَزَۃً القومَ: ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کو لینا۔

۵۔ کُرَز الجُعَلِ ج اَکرازُ و کِرَزَۃ: گبریلا کی گولی۔ الکَرَزُ واحد کَرَزَۃٌ (ن) پھولوں والا ایک پودا جو ابتدائی طور پر ایران میں اگا اس کا پھل شفتالو کی طرح لیکن اس سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے اسے تازہ بھی کھایا جاتا ہے اور مشروبات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اب یہ تمام معتدل آب و ہوا والے علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔ (یونانی) الکُرَّزُ ج کَرارِزَۃ: حاذق ماہر، نجیب۔ الکُرَیزُ: پنیر۔

۶۔ کَرزَمَ کَرزَمَۃَ الرجُلُ: دوپہر میں کھانا۔ الکَرزَمُ: بہت کھانے والا، چھوٹی ناک والا، کلہاڑا۔ الکِرزَمُ ج کَرازِمُ والکِرزِیمُ ج کَرازِیمُ: کلہاڑا، سخت مصیبت۔

○ کَرز و کَرَازَۃ: وعظ، انجیل کا وعظ یا خطبہ۔ الکرازۃُ المَرقُسِیۃ: عیسائی ولی مرقس کا مشنری صوبہ (میدان)، مصری عیسائی قبیلہ کا دائرہ اختیار۔ تکریز جمع تکاریز: نیاز، نیاز، چڑھاوا، اشیرباد (عیسائیت میں)۔ کَرَز واحد کَرَزَۃ: گیلاس، شاہ دانہ۔ کَرَزِی: گیلاس جیسا

سرخ۔

کرس: کَرَّسَ البناءَ: عمارت کی بنیاد رکھنا۔ اَکرَسَ المکانُ: کا بول و براز سے تھڑنا۔ — ھ: کو بول و براز والی جگہ میں داخل کرنا۔ تکَرَّسَ: بنیاد رکھا جانا۔ — الشیئُ: تہ بتہ ہونا اور سخت ہونا۔ — اُسُّ البناءِ: عمارت کی بنیاد کا مضبوط ہونا، تھڑنا۔ — الحبَّ ونحوہٗ: دانہ وغیرہ جمع کرنا۔ الکِرسُ ج اَکراس' ' جج اَکارِسُ و اَکارِیسُ: اصل، بول و براز سے تھڑا ہوا، ہر چیز کا ڈھیر، بکریوں کے بچوں کا باڑہ۔ کِرسُ الحوض: حوض کے ارد گرد بول و براز سے لتھڑی ہوئی زمین۔ الکُرَّاسُ والکُرَّاسۃُ ج کَرارِیسُ: کتاب کا جزء، پمفلٹ الکُرسِیُّ ج کَراسِیُّ و کَراسٍ: تخت، کرسی، جس پر بیٹھا جائے، (کہا جاتا ہے۔ اجعل لھذا الحائط کرسیا: اس دیوار کے لئے پشتہ بناؤ) علم کہا جاتا ہے۔ ھو من اھل الکرسی: یعنی وہ اہل علم میں سے ہے۔ — الرسولیُّ: پادری کا مرکز اعمال۔ کُرسِیُّ الملکِ: تخت شاہی۔ کُرسِیُّ الاسقف: پادری کی اقامت گاہ۔ کُرسِیُّ الجوزاء (فلک): مجمع النجوم کا ایک ستارہ۔ الکَراسِیُّ: علماء۔ الکِریاسُ ج کَرایِیسُ: چھت کے اوپر پاخانہ۔ المُکَرَّسُ (مفع) من القلائد: دودھاگوں میں علیحدہ علیحدہ موتی اور مہرے کو گوندھ کر بڑے مہروں سے جوڑا ہوا ہار۔ المُکَرَّسُ (مفع): جوان پستہ قد پر گوشت۔ — من القلائد: بمعنی المُکَرَّس

۲۔ کَرَّسَ الشیئَ لَہٗ: کو کیلئے وقف کرنا، خاص کرنا۔ — نفسَہٗ علی الشیئ: کیلئے وقف ہونا۔ الاسقفُ البیعۃَ او الاوانی الکنسیۃَ وَغیرَھا: پادری کا گرجے اور گرجے کے برتنوں وغیرہ کو وقف کرنا، (خدمت الٰہی کے لئے مخصوص کرنا)۔ تکَرَّسَ: وقف ہونا، خدمت اللہ کے لئے مخصوص ہونا۔ اِنکَرَسَ علیہ: پراوندھا ہونا۔ — فی الشیئ: میں اوندھا ہو کر داخل ہونا۔

۳۔ الکَرَوَّسُ: بڑے سر والا۔ ہر ضخیم چیز، سیاہ۔

۴۔ الکَرَستہ فی اصطلاح السکافین: جوتی بنانے والا چمڑہ۔ تاجر الکرستہ: چمڑے کا تاجر (ترکیہ)

۵۔ کَرسَعَ کَرسَعَۃً الرجُلُ: دوڑنا۔

۶۔ کَرسَعَ کَرسَعَۃً فلانًا: کے گٹے کے چھنگلیا والے حصے پر مارنا۔ الکُرسُوعُ ج کَرَاسِیعُ: گٹے کا چھنگلیا کی طرف کا حصہ۔ کُرسُوعُ القدم: ٹخنے کا جوڑ۔ المُکَرسَعُ مونث مُکَرسَعَۃٌ: گٹے کی چھنگلیاں کی طرف ابھرا ہوا حصہ والا۔

۷۔ الکُرسَعَۃُ والکُرسُوعَۃُ: لوگوں کی جماعت۔

۸۔ کَرسَفَ الدابَّۃَ: چوپایہ کی کونچ کاٹنا۔ — البعیرَ: اونٹ کے پاؤں کس کر باندھنا۔ — الدواۃَ: دوات میں صوف ڈالنا۔ تکَرسَفَ: کونچ کٹنا، پاؤں بندھنا، دوات میں صوف پڑنا۔ — الشیئُ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ الکُرسافَۃُ: آنکھ کی کدورت اور سیاہی۔ الکُرسُفُ والکُرسُوفُ: روئی۔ الکُرسُفَۃُ والکُرسُوفَۃُ: روئی کا ٹکڑا، دوات کا صوف۔

۹۔ الکِرسِنَّۃُ والکِرسَنَّۃُ (ن): ایک پھلی دار پودا جو چارہ کے کام آتا ہے۔

○ کَرَّسَ ھ: (عمارت) کی بنیاد رکھنا۔ تکَرَّسَ: متحد رہنا، مربوط رہنا، کُرسی جمع کَراسی و کَراسٍ: کرسی، تخت۔ اسقف کا علاقہ، نشست، پروفیسر کا عہدہ، یونیورسٹی کی پروفیسری، بنیاد، پایا، نیو، گولی (مشین کا پرزہ) کرسی بیل یا کرسی بلّی: بال، بیرنگ، کرسی دائر: چول اور چھلّے والا اسٹول، گھومنے والا اسٹول، گھومنے والی کرسی۔ الکرسی الرسُولی: داعی کا علاقہ۔ کرسی طویل: آرام کرسی یا صوفہ، کرسُی المَلِك: تخت شاہی کرسُی المَملَکَۃ: راجدھانی، دارالسلطنت، دارالحکومت۔ کرسی ھزّاز: جھولنے والی کرسی، جھولا کرسی۔ اُستاذ کرسی: مکمل پروفیسر۔ کُرّاسۃ جمع کراسات و کراریس: چوبیس تختے کاغذ، کتابچہ، نوٹ بک، کاپی بک، نقشوں کی کتاب، خاکوں کی کتاب، رسالہ، پمفلٹ، گلدستہ (کتاب کا) کَرَّسَ ھ: (عیسائیت میں) کسی چیز کو دینی کام کے لئے وقف کرنا۔ — ھ: اصولوں کو (مثلاً) مقدس قرار دینا۔ — ھ ل: کو سے منسوب کرنا، کو کی نذر کرنا۔ تکریس: نذر نیاز، وقف، انتساب، رسومات کے ساتھ آغاز، افتتاح (مسیحیت میں) نذر، وقف، تھدیہ، کتاب معنون کرنے کا مقدمہ، نذر کرنا، وقف کرنا، مُکَرَّس: نذر کیا ہوا، وقف کیا ہوا، دینی کام کے لئے وقف شدہ۔ ماءٌ مُکَرَّس: متبرک پانی۔

○ کُرسُوع جمع کَراسِیع: کلائی کی ہڈی

○ کَرسَفَ ھ: کسی جانور کی کونچیں کاٹنا، کِرسِنَّۃ و کِرسَنَّۃ: پھلی دار پودے جو چارے کے کام آتے ہیں۔

کرش: ۱۔ کَرِشَ — کَرَشًا الجلدُ: آگ سے کھال سکڑنا۔ — الرجُلُ: تنہائی کے بعد جماعت والا ہونا۔ کَرَّشَ: ترش روئی کرنا۔ مُکَرَّشَۃ: (ایک قسم کا کھانا) بنانا۔ تکَرَّشَ القومُ: اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ —

وجهُهُ: ترش رو ہونا۔ اِستَكرَشَ الرجُلُ: تیوڑی چڑھانا اور ترش روئی کرنا۔ ـــ الجديُ: بکری کے بچے کا بڑے پیٹ والا ہونا اور وہ کھانا شروع کردے۔ ـــ ت إنفحةُ الجدي: بکری کے بچے کے انفحہ کا کرش ہونا۔ (بکری کا بچہ جب تک کچھ نہ کھائے اور صرف دودھ پیتا رہے تو اس کی آنت کو انفحہ کہتے ہیں اور جب وہ کچھ کھانے لگے تو پھر کرش کہتے ہیں۔ الكِرْشُ والكَرِشُ ج كُرُوْشٌ: کھروں والے اور جگالی کرنے والے جانور کی اوجھ (مونث) ـــ ج اَكْرَاشٌ و كُرُوْشٌ: خوشبو کا ڈبہ، کپڑے کی گٹھڑی، لوگوں کی جماعت، مرد کے اہل وعیال، چھوٹی اولاد۔ (ن) ایک بہترین قسم کی گھاس جسے کھا کر اونٹ اور گھوڑے موٹے ہو جاتے ہیں۔ كَرِشُ القومِ: قوم کا بڑا حصہ۔ كَرِشُ كُلِّ شيئٍ: ہر ایک چیز کا اجتماع۔ الاَكْرَشُ من الرجال مونث كَرْشَاءُ ج كُرْشٌ: بڑے پیٹ والا۔ اور بقول بعض زیادہ مال والا۔ قَدَمٌ كَرْشَاءُ: پر گوشت بھرے ہوئے تلوے اور چھوٹی انگلیوں والا قدم۔ اَتَانٌ كَرْشَاءُ: بھرے ہوئے کوکھ والی گدھی۔ دَلْوٌ كَرْشَاءُ: بڑا ڈول۔ التَّكْرِيْشَةُ (ط): اوجھ میں پکا ہوا کھانا۔ المُكَرَّشَةُ (ط): گوشت وغیرہ پر مشتمل کھانا جو اوجھ کے ٹکڑے میں پکایا جاتا ہے۔

٢۔ الكَرْشَنَةُ: عربی حروف کو اجنبی حرفوں کے انداز میں لکھنا یا اس کے برعکس کرنا۔ الكَرْشُونِيُّ: عربی الفاظ جو سریانی حروف میں لکھے جائیں (سریانیہ)۔

○ كَرِشَ ـــ كَرَشًا: جھریاں پڑنا، شکن پڑنا، مرجھانا، سوکھ کر جھری دار ہونا، پرشکن ہونا، بل ڈلنا، اینٹھنا، چیں بہ جبیں ہونا، كَرَّشَ: اپنے چہرے پر جھریاں ڈالنا، شکن ڈالنا، بھنویں سکوڑنا، تیوری چڑھانا، چیں بہ جبیں ہونا، خفگی کی نگاہ سے دیکھا، گھورنا، آنکھیں نیلی پیلی کرنا، گھرکنا، چشم نمائی کرنا۔ تكَرَّشَ بمعنی كَرِشَ كِرْشٌ و كَرِشٌ (مونث) جمع اَكْرَاشٌ و كُرُوشٌ: پیٹ، شکم، توند، كِرْشَةٌ: آنت، انتڑی، اوجھڑی، آنتیں، انتڑیاں كَرِيْشَةٌ: کریب (کپڑے کی ایک قسم) اَكْرَشُ اور مُكْرِشٌ: توند والا، توندل، بڑے پیٹ والا۔

كرص: كَرَصَ ـ كَرْصًا الشيئَ: کو کوٹنا، ہاتھ سے نچوڑنا۔ كَرَّصَ: پنیر کھانا۔ الكَرِيْصُ: پنیر، پنیر بنانے کی جگہ۔ اِكْتَرَصَ الشيئَ: کو جمع کرنا۔ المِكْرَصُ: دودھ دوہنے کا برتن۔

كرض: كَرَضَ ـ كَرْضًا الشيئَ: کو تہہ بتہ رکھنا۔

كرظ: كَرَظَ ـ كَرْظًا في عرض فلان: کو طعنہ دینا، کی عزت میں عیب لگانا کہا جاتا ہے۔ هُوَ مَكْرُوْظُ الحَسَبِ: اس کا حسب معیوب ہے۔

كرع: كَرَعَ ـ كَرْعًا و كَرَعَةً: کی پنڈلی پر تیر مارنا۔ كَرِعَ ـ كَرَعًا: پنڈلی کی تکلیف کی شکایت کرنا، پایہ کھانے کا شوقین ہونا، باریک پنڈلی والا ہونا۔ ـــ ت الساقُ: پنڈلی کے اگلے حصہ کا باریک ہونا۔ تكَرَّعَ الرجُلُ: وضو کرنا، اطراف اعضاء پر پانی بہانا۔ الكَرَعُ: جانور کی ٹانگیں، کمینے فرد یا یہ لوگ، جنہیں جانور کی ٹانگوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کمینی طبیعت کا/کے مالک، واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ كَرَعٌ و رِجَالٌ كَرَعٌ۔ الكُرَاعُ ج اَكْرُعٌ و اَكَارِعُ: گائے اور بکری کے پائے (مذکر و مونث) بعض کے بقول کُراع ٹخنوں کے نیچے کے حصہ کو کہتے ہیں۔ والكُرَاعُ مِنَ الانسانِ: گھٹنے سے نیچے کی پنڈلی، گھوڑے، گدھے، خچر، ہر شئے کا کنارہ۔ كُرَاعُ الارضِ: زمین کا گوشہ کہا جاتا ہے۔ اِمْشِ فِي كُرَاعِ الطَّرِيْقِ: یعنی راستے کے کنارے پر چلو۔ اَكَارِعُ الارضِ: زمین کی آخری حدیں الكُرَاعِيُّ: پائے بیچنے والا۔ الكَرَّاعُ: کم تر لوگوں کا ہم نشیں۔ الاَكْرَعُ: پتلی پنڈلیوں والا۔ فَرَسٌ مُكْرَعُ القَوَائِمِ: مضبوط ٹانگوں والا گھوڑا۔

٢۔ كَرَعَ ـ كَرْعًا و كُرُوْعًا في الماء او الاناء: پانی یا برتن میں منہ لگا کر پانی پینا۔ كَرِعَ ـــ كَرَعًا و كُرُوْعًا في الماء او الاناء: منہ لگا کر پانی پینا۔ كَرَعَتِ السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔ اَكْرَعَ القومُ: کو منہ سے پانی پینے کے قابل پانا۔ ـــ هُ الصيدُ: سے شکار کا قریب ہونا۔ الكَارِعُ (فا): پانی میں غوطہ لگانے والا پیے یا نہ پیے۔ الكَارِعَةُ ج كَارِعَاتٌ، الكَارِعُ کی مونث۔ الكَارِعَاتُ: پانی کے اوپر کھجور کے درخت۔ الكَرَعُ (مص): منہ لگا کر پینے کے قابل پانی۔ الكَرَّاعُ: (اسم مبالغہ فعّال کے وزن پر) بارش کے پانی سے اپنے جانوروں کو سیراب کرنے والا۔ الكَرِيْعُ: برتن نہ ہونے کی وجہ سے چلو بھر کر دریا سے پانی پینے والا۔ المَكْرَعُ ج مَكَارِعُ: جانوروں کے پانی پینے کی جگہ۔ المُكْرَعَةُ من النخيلِ وغيرهٖ: پانی میں لگائے ہوئے کھجور وغیرہ کے درخت۔

○ كَرِعَ وكَرَعَ ـــ كَرْعًا و كُرُوعا: چسکی لینا، ہونٹوں سے تھوڑا تھوڑا پینا۔ تَكَرَّعَ: پاؤں دھونا، ٹانگیں دھونا (نماز کی تیاری کرتے ہوئے) وضو کرنا، ڈکار لینا۔ كَرْعَةٌ: چسکی، چسکی لینا، وہ مقدار جو ایک دفعہ نگلی جا سکے۔ كُرَاعٌ (مذکر و مونث) جمع اَكْرُعٌ و اَكَارِعُ: پاؤں، خصوصاً بھیڑ یا بیل کے پائے، ٹانگ، حد، انتہا، اَكَارِعُ الارضِ: زمین کے دور ترین علاقے۔ تَكْرِيْعَةٌ: ڈکار لینا، ڈکار، كَارِعٌ جمع كَوَارِعُ: پاؤں، جانوروں کے پائے، ٹخنہ، ٹخنہ کی ہڈی، جمع بھیڑ کے پایوں سے تیار کیا ہوا کھانا۔ كَرَفْسٌ: اجوائن خراسانی۔

كرف: كَرَفَ ـِ كَرْفًا و كِرَافًا و اَكْرَفَ الحمارُ وغيرُهُ: گدھے وغیرہ کا پیشاب کو سونگھ کر سر اٹھانا اور ہونٹوں کو پلٹنا۔ ـــ الشيئَ: کو سونگھنا۔ الكِرْفُ: ایک ہی چمڑے کا ڈول۔

٢۔ الكَرَّافِيَّةُ (عند العامة): چھوٹی گردن اور کھلے جسم والی صراحی (اطالوی زبان)۔

٣۔ كَرْفَأَتِ القِدْرُ: ہانڈی کا جھاگ دینا۔ ـــ القومُ: خلط ملط ہونا۔ تكَرْفَأَ السحابُ: بادل کا تہہ بتہ ہونا۔ الكِرْفِئُ: بلند بادل اور اس کے ایک حصہ کو كِرْفِئَةٌ کہتے ہیں، انڈے کے اوپر کا چھلکا۔

٤۔ المُكَرْفَحُ: بدصورت چہرہ والا۔

٥۔ كَرْفَسَ كَرْفَسَةً: بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا۔ ـ البعيرَ: کو تنگ باندھنا۔ تكَرْفَسَ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ الكُرْفُسُ (ن): روئی۔ الكَرَفْسُ (ن): جوائن کی نسل کی ایک سبزی ہے جو بحر متوسط کے ساحلوں اور دیگر کئی علاقوں میں بھی کاشت کی جاتی ہے ابتدائی طور پر اس کو طبی پودے کے طور پر اگایا گیا تھا بعد میں یہ غذائی اجناس میں شامل ہوگئی اور اس کی مختلف قسمیں ہیں ان میں سے ایک كَرَفْسٌ كَرَنْبِيٌّ ہے جس کی جڑیں کھائی جاتی ہیں۔ (سریانیہ)۔

كرك: الكُرْكِيُّ: ج كَرَاكِيُّ (ح): سارس نام کا ایک پرندہ خیالہ رنگ، گردن اور ٹانگیں لمبی، دم بالکل چھوٹی، تھوڑے گوشت والا، کبھی کبھی پانی میں رہتا ہے۔ الكُرَيْكِيُّ: مثلا تصغیر کے لئے مستعمل ہے (عامی زبان میں)

٢۔ الكَرْكَدَنُّ (ح): گینڈا، بہت بڑے کھردار جسم اور بالوں سے عاری چھوٹی ٹانگوں اور مضبوط جسم والا جانور، ٹانگیں چھوٹی جبکہ جسم مضبوط، سر پہ ایک سینگ ہوتا ہے، بعض قسموں میں ایک سینگ کے اوپر ہی ایک اور سینگ ہوتا ہے اس کو مِرْمِيس اور وَحِيْدُ القرن بھی کہتے ہیں (فارسیہ)

٣۔ كَرْكَسَ الشيئَ: کو رد کرنا، ہٹانا۔ ـــ الدابةَ: چوپائے کو باندھنا۔ ـــ و تَكَرْكَسَ الانسانُ: اوپر

سے نیچے لڑھکنا۔

۴۔ الکُرکُمُ: مصطگی (ن) زعفران (ن): مصطگی ایک نباتات کی جڑ جو ورس یا اس کے مشابہ ہے۔ (دیکھو الورس)

۵۔ الکُرکُنْدُ: سرخ رنگ کا گوند، گینڈا۔

○ کُرُك: پوستین، سمور، جانور کی ملائم کھال۔ کَرّکَة: عرق نکالنے، مقطر کرنے یا جوہر کشید کرنے کا آلہ یا بوتل۔ بھبکا۔ قرنبیق۔ کُرْکِی جمع کَرَاکِی: کلنگ، کرکول، سارس، لق لق۔ کَرّاکَة جمع کَرّاکات: دریاؤں وغیرہ کی تہہ سے کیچڑ نکالنے کی مشین (ڈریج) اصلاحی قید خانہ۔

○ کَرْکَبَ ہ: کو بے ترتیب کرنا، تلے اوپر کر دینا، درہم برہم کر دینا، گڈمڈ کر دینا۔ ۔: شور برپا کرنا۔ کَرْکَبَة: بے ترتیبی، افراتفری، پراگندگی۔ ابتری۔ خلط ملط، بدنظمی۔ گڑبڑ۔

○ کَرْکَدَّن و کَرْکَدَن: گینڈا، کرکدن، کرکدن بحری: ایک سینگ والی وہیل مچھلی جو بحر شمال میں ہوتی ہے۔ کَرْکَرَ ہ: کو دہرانا، مکرر کرنا، بار بار کہنا یا کرنا۔ ـــ: پیٹ کا گڑگڑانا، گدگدی ہونا۔ لطف آنا۔ کَرْکَرَ فی الضحك: کھلکھلا کر ہنسنا، زور سے ہنسنا، کَرْکَرَة: اونچی آواز میں ہنسی، پیٹ کی گڑگڑاہٹ

○ کُرْکُم: پسی ہوئی (ہلدی)، زرد چوب، ہلدی پٹھرس۔

○ کُرْکُنْد: مختلف رنگوں کا لعل، یاقوت۔ جھینگا مچھلی۔

○ کُرْکوز: نقلی کھیل۔

○ کَرْکون: تھانہ، پولیس چوکی۔

کَرَمَ ـُ کَرْمًا ہٗ: پر کرم میں غالب ہونا، کہا جاتا ہے کَارَمَہٗ فَکَرَمَہٗ: اس نے اس سے کرم میں مفاخرت کی اور غالب ہو گیا۔ کَرُمَ ـُ کَرَمًا و کَرَامَةً و کَرَامَةً: سخی اور فیاض ہونا، عزیز و نفیس ہونا۔ ـــ السحابُ: بادل کا بارش لانا۔ کَرَّمَ تَکْرِیمًا و تَکْرِمَةً ہٗ: کی تعظیم کرنا۔ تنزیہ کرنا۔ کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْهَهٗ: اللہ تعالیٰ انہیں باعزت کرے۔ ـــ و کُرِّمَ السَّحابُ: بادل کا بہت پانی والا ہونا۔ کَارَمَ ہٗ: پر کرم میں مفاخرت کرنا۔ ـــ کَارَمْتُ فُلَانًا: میں نے اس کے پاس ہدیہ بھیجا تاکہ وہ بدلہ دے۔ اَکْرَمَ: کریم اولاد والا ہونا۔ ـــ فلانًا: کی تعظیم کرنا۔ ـــ نَفْسَهٗ عن المعاصی: خود کو گناہوں سے بچانا، محفوظ رکھنا، تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ مَا اَکْرَمَهٗ لی: یعنی وہ میری کس قدر تعظیم کرتا ہے اور فعل رباعی سے ہونے کی وجہ سے یہ شاذ ہے۔ تَکَرَّمَ: بتکلف کرم کرنا۔ ـــ و تَکَارَمَ عن کذا: سے بچنا، دور رہنا۔ اِسْتَکْرَمَ: عمدہ عمدہ چھانٹ لینا۔ ـــ الشیئ: اچھی چیز طلب کرنا، اچھی چیز پانا۔

الکَرْمُ ج کُرُوْمٌ واحد کَرْمَةٌ: (ن) انگور کی بیل، اس کا اصلی گہوارہ ایشیا کوچک ہے قدیم زمانے سے بحر متوسط کے کناروں پر اگائی جا رہی ہے وہیں سے پوری دنیا میں پھیلی۔ تازہ اور خشک دونوں قسم کا انگور کھایا جاتا ہے انگور سے نبیذ، عرق اور شیرہ بنایا جاتا ہے۔ فصیل والا انگبان باغ انگور، بعض کے نزدیک اسے کرم اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے بنائی جانے والی شراب سخاوت اور کرم پر ترغیب دیتی ہے۔ ہار۔ بِنْتُ الکَرْمِ او الکَرْمَةِ او الکُرُوْمِ: شراب کہا جاتا ہے۔ اَفْعَلُ ذالِكَ وَکَرْمًا و کُرْمَةً و کُرْمَةَ عَیْنٍ لَكَ: یعنی تمہاری تعظیم کے لئے کرتا ہوں۔ الکَرَمُ (مص): درگزر، بخشش، فیاضی ہار میں ایک قسم کی کاریگری، صفت بمعنی کریم و طیب اور یہی لفظ واحد، جمع، مذکر اور مونث سب کے لئے مستعمل ہے۔ رَجُلٌ کَرَمٌ وَنِسَاءٌ کَرَمٌ وَاَرْضٌ کَرَمٌ۔ الکَرْمَةُ: انگور کی بیل، یہ کرم سے خاص ہے، کہا جاتا ہے۔ اَفْعَلُ ذالِكَ وَکَرْمَةً لَكَ یعنی کَرَامَةً اور کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ کَرْمَةٌ یعنی کَرِیْمٌ اور کہا جاتا ہے۔ افعل ذالك وکُرْمَی وکُرْمَانًا لك یعنی وکَرَامَةً لَكَ۔ الکُرَّامُ ج کُرَّامُوْنَ: کریم۔ الکَرَامَةُ (مص) خارق عادت امر جو اولیاء اللہ سے ظاہر ہو کہا جاتا ہے۔ اَفْعَلُ ذَالِكَ وَکَرَامَةً لَكَ اور لَهٗ عَلَیَّ کَرَامَةٌ فلاں کے لئے میرے ہاں بزرگی ہے۔ الکَرَّامُ انگور کی بیل والا اور اس کی نگہبانی والا۔ الکُرَّامُ و الکُرَّامَةُ ج کُرَّامُوْنَ: بہت زیادہ کرم کرنے والا۔ الکَرِیْمُ ج کِرَامٌ و کُرَمَاءُ: درگزر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے، صاحب کرم، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ کَرِیْمٌ سخی انسان اور لفظ کَرِیْمٌ کا اطلاق ہر اچھی، پسندیدہ اور قابل تعریف چیز پر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے رِزْقٌ کَرِیْمٌ: بہت روزی۔ قَوْلٌ کَرِیْمٌ: معانی کے لحاظ سے پسندیدہ اور الفاظ اور فوائد کے اعتبار سے بہت اچھا۔ وَجْهٌ کَرِیْمٌ جمال و محاسن کے اعتبار سے پسندیدہ چہرہ۔ الکَرِیْمَانِ: حج اور جہاد۔ الکَرِیْمَةُ ج کَرِیْمَاتٌ و کَرَائِمُ و کِرَامٌ الکَرِیْمُ کا مونث: صاحب کرم و حسب، کہا جاتا ہے، فُلَانَةٌ کَرِیْمَةُ قَوْمِهٖ: فلاں اپنی قوم میں شریف ہے۔ کَرِیْمَةٌ میں تاء مبالغہ کے لئے ہے، ہر عضو شریف جیسے ہاتھ کان۔ کَرِیْمَةُ الرَّجُلِ: بیٹی۔ کَرَائِمُ المَالِ: عمدہ اور بہترین مال۔ الکَرِیْمَتَانِ: دونوں آنکھیں۔ الاُکْرُوْمَةُ: کرم کا فعل۔ الکُرْمَة

(مص): تکیہ، تکیہ جس پر انسان کو عزت و تعظیم کے خیال سے بٹھایا جائے۔ المِکْرَامُ: لوگوں کا اکرام کرنے والا، فیاض۔ المَکْرُمُ و المَکْرُمَةُ ج مَکَارِمُ: شریف، فیاض، اَرْضٌ مَکْرُمَةٌ لِلنَّبَاتِ: عمدہ و زرخیز زمین۔ المَکْرُمُ و المَکْرُمَةُ: کریم، کرم کا فعل، کہا جاتا ہے۔ فِعْلُ الْخَیْرِ مَکْرُمَةٌ یعنی فعل خیر کرم یا تعظیم کا سبب ہے۔ المَکْرُمَانُ: کریم، بہت وسیع اخلاق والا اور یہ ندا ہی کے لئے مخصوص ہے کہا جاتا ہے۔ یَامَکْرُمَانُ، المُکْرَمُ (مفع): ہر ایک کے نزدیک باعزت شخص۔

۲۔ الکُرْمَةُ (ع ا): ران کی گول ہڈی کا سرا۔ الکُرُوْمُ (لٹ): کروم (Chrome) ایک دھاتی عنصر (Chromium)۔

کرن: الکُرُنْبُ و الکَرَنْبُ: اسے "ملفوف" بھی کہا جاتا ہے (ن) کرم کلا، بند گوبھی (Cabbage) (یونانیہ)۔ الکُرُنْبُ و الکَرَنْبُ اللِّفْتِیُّ: کرم کلا کی ایک قسم ہے جس کے بیج اور تنا سخت ہوتے ہیں اسے شلغم کی طرح کھایا جاتا ہے اور چارہ کے طور پر جانوروں کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ فَرَاشَةُ الکَرَنْبِ: پروں والا نقصان دہ کیڑا ہے۔ اس کا رنگ اکثر سفید ہوتا ہے اس کی بعض اقسام بند سبزیوں کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے اسے دودة الکرنب یا دودة الملفوف بھی کہا جاتا ہے الکُرُنْبِیَّةُ (ط): ایک قسم کا کھانا جو کرم کلا سے بنایا جاتا ہے۔ الکَرَنْبِیَّاتُ: (ح) فراشة الکرنب کی طرح کا ایک پردار کیڑا۔

۲۔ کَرَنَفَ الکَرَانِیْفَ: کھجور کی ٹہنی کو کاٹ لینے کے بعد تنا میں جو حصہ باقی رہ جائے اس کو کاٹنا۔ ہٗ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ الشیئَ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا۔ ـــ النخلةَ: تنا کو کھجور کے باقی ماندہ حصہ سے صاف کرنا۔ الکِرْنَافُ و الکُرْنَافُ واحد کُرْنَافَةٌ ج کَرَانِیْفُ: کھجور کی ٹہنی کو کاٹ لینے کے بعد تنا میں باقی ماندہ حصہ۔ اَنْفٌ مُکَرْنَفٌ: موٹی ناک۔

○ کَرُمَ ـــ کَرَمًا و کَرَمَةً و کَرَامَةً: شریف و نجیب ہونا، عالی منش و عالی ظرف ہونا۔ شریف النفس ہونا، سخی و فیاض ہونا، فراخدل ہونا، آزاد خیال ہونا، قیمتی ہونا، گراں بہا ہونا، کَرَّمَ ہٗ: کو شریف اور عالی منش کہنا، کا احترام کرنا، کا عقیدت مند ہونا، کی توقیر کرنا، کا بڑا احترام کرنا، کے ساتھ ادب و تعظیم سے پیش آنا۔ ہٗ علی: کو پر سرفراز کرنا۔ دوسروں کے سامنے کسی کو اعزاز بخشنا عطا کرنا، کَرَّمَ اللّٰهُ وجهه: اللہ تعالیٰ

اسے اعزاز عطا فرمائے۔ کَارَمَ ہ: سے سخاوت میں مقابلہ کرنا، سے تہذیب، ادب اور احترام کے ساتھ ملنا اَکْرَمَ ہ: کو شریف، نجیب، عالی نفس یا عالی ظرف کہنا، کی عزت کرنا، احترام کرنا، سے ادب، احترام اور مہمان نوازی کے ساتھ پیش آنا، کو اعزاز عطا کرنا۔ —: خود کو عالی منش اور فیاض ثابت کرنا۔ — ہ ب: کو اعزاز عطا کرنا، کو کچھ پیش کرنا۔ کا تحفہ دینا یا کا ہدیہ پیش کرنا، کو کچھ عطا کرنا، عنایت کرنا، مرحمت کرنا۔ تَکَرَّمَ: فیاض بننا، فیاضی کا تصنع کرنا۔ اپنی سخاوت کا رخ دکھانا۔ شریف ہونا، نجیب ہونا، دوستانہ، مہربان و رحم دل ہونا۔ ـ ب علی: کسی کے متعلق یا کی طرف سے کچھ (ب) کرنے کی مہربانی کرنا۔ علی ب: کو کچھ پیش کرنا، کو از راہ نوازش کچھ عطا کرنا۔ کَرْم: اسم جمع جمع کُرُوم: انگوری بیل، انگور، انگور کی بیلیں، باغ بوستان (پھلدار درختوں کا) بِنْتُ الکَرْم: شراب۔ کَرْمَة: انگور کی بیل۔ کَرَم: شریف طبیعت، خو، افتادِ طبع۔ اعلیٰ نفسی، اعلیٰ ظرفی، شریف النفسی، سخاوت، فیاضی، مہربانی، دوستانہ سلوک، دوستی، رواداری، بے تعصبی، بڑی فیاضی کَرَمًا: بڑی مہربانی سے، بڑی مروت سے، بڑی نوازش سے، کرم الاخلاق: شریف النفسی، شریف کردار کَرَمُ المَحْتِد: اعلیٰ خاندان۔ کُرْمَةً لَكَ و کُرْمَانًا لَكَ: تمہاری خاطر، تمہارے اعزاز میں، آپ پر کرم فرمائی کے طور پر۔ کَرَامَة: شرافت، نجابت، عالی نفسی، عالی ظرفی، شریف دلی، فیاضی، فراخدلی، عظمت، قدر و منزلت، عزت، احترام، مسلمہ حیثیت، وقار، عزت کی علامت، احترام کا نشان، کرم فرمائی جمع کَرَامات (کسی ولی وغیرہ کا) معجزہ حُبًّا و کَرَامَةً لَكَ: تمہاری خاطر، تمہارے اعزاز میں، بڑی خوشی سے، بڑی سے بڑی مسرت سے صَاحِبُ کرامات: معجزہ کرنے والا۔ کَرِیم جمع کُرَمَاء و کِرَام: شریف، نجیب، ممتاز، بلند مرتبہ کا، نمایاں، غیر معمولی، عالی منش، عالی ظرف، شریف دل، سخی، فیاض، مہمان نواز، نیک اور رحم دل محسن، محسن، مہربان شفیق، دوست، بامروت، مدد کرنے والا۔ قابل عزت، قابل احترام، مہذب، شائستہ، قیمتی، بیش بہا، بیش قیمت، نسلی، نسل دار، الکریمان: جہاد اور مکہ معظمہ کا حج کریمُ الاخلاق: عالی منش، عالی ظرف، شریف النفس، شریف دل، شریف، نجیب، کریمُ الاصل: اعلیٰ خاندان کا، خاندانی، حجر کریم: قیمتی پتھر، گوہر، حصان کریم: نسلی گھوڑا دخل کریم: معقول یا آبرومندانہ آمدنی۔ المَعَادِنُ الکریمة: قیمتی دھاتیں، کَرِیمَة جمع کَرَائِم: قیمتی چیز، جسم کے اعضا رئیسہ میں سے ایک عضو جیسے آنکھ، دختر، بیٹی الکریمتان: دو آنکھیں کَرَائِمُ المال (الاموال): نہایت قیمتی اشیاء (کسی کی ملکیتی) کَرَّام جمع کَرَّامون: انگور کی بیلیں اگانے والا۔

○ اَکْرَم جمع اَکَارِم: شریف تر، نجیب تر، زیادہ ممتاز، زیادہ قیمتی، نہایت قابل احترام، بڑا عالی منش، بہت شریف دل، نہایت سخی، مَکْرَم و مَکْرُمَة جمع مَکَارِم: شریف وصف، اعلیٰ خوبی۔ مکارِم الاخلاق: شریف خصوصیات یا اوصاف، اوصاف حمیدہ، کردار کی خوبیاں مَکْرُمَة جمع مَکَارِم: شریف کام تکریمًا لَكَ: تمہارے اعزاز میں۔ اِکرامًا لَهٗ: اس کے اعزاز میں۔ اِکرامِیَة جمع اکرامیات: اعزازیہ، اعزازی تنخواہ، سالانہ انعام مُکَرَّم: معزز، محترم، مقدس، بے حد محترم۔ المُکَرَّمَة: مکہ کا لقب (چنانچہ کہا جاتا ہے مکة المُکَرَّمَة)

○ کَرْمَشَ و تَکَرْمَشَ: سکڑنا، تہوں میں آجانا، شکن پڑنا، جھرمر ہوجانا، شکن زدہ ہوجانا، کَرْمَشَة: تہہ، سلوٹ، شکن، چنٹ بنی جانے والی چیز۔

○ الکَرْمَل: کارمل پہاڑ (شمالی فلسطین میں بلند قطعہ زمین جو سمندر میں چلا گیا ہے)۔

○ کَرَمِلا: سوختہ شکر کی مٹھائی۔

○ الکَرْمِلِین: روسی قلعہ Kremlin، روسی سویت حکومت کا صدر مقام۔

○ کُرَنْتِینَة جمع کرنتینات: قرنطینہ۔

○ کُرْنَاف جمع کَرَانِیف: کھجور کے درخت کا ٹھنٹھ یا بچا ہوا ٹکڑا۔ کُرنافة جمع کرنافات: بندوق کا کندا، رائفل کا کندا۔

○ کَرَنْك جمع کَرَنْکَات: دھری پھیر، چکر کہنی، گھمیا (Crank Shaft, Crank)

○ کرنیش و کورنیش جمع کَرَانِیش: کگر، کارنس، کارنس کا آرائشی حاشیہ، چھجا، ساحلی سڑک، جو سمندر کے کنارے کنارے چلتی ہو یا کنارے پر واقع ہو۔

کره: کَرِهَ ـ کَرْهًا و کُرْهًا و کَرَاهَةً و کَرَاهِیَةً و مَکْرَهَةً و مَکْرُهَةً الشیئَ: کو ناپسند کرنا صفت فاعلی۔ کَارِهٌ صفت مفعولی مَکْرُوهٌ۔ کَرُهَ ـُ کَرَاهَةً و کَرَاهِیَةً الامرُ او المنظرُ: قبیح ہونا صفت: کَرِیهٌ۔ کَرَّهَ الشیئَ فلانًا و کَرَّهَ الشیئَ الی فلان: چیز کسی کو ناپسند کرانا۔ اَکْرَهَ الرجُلَ: کو ناپسندیدہ امر پر اکسانا۔ — فلانا علی الامر: کو پر مجبور کرنا۔ تَکَرَّهَ و تکارَهَ الشیئَ: کو ناپسند کرنا۔ — ہ: پر غضبناک ہونا۔ اِستَکْرَهَ الشیئَ: کو قبیح پانا، قبیح سمجھنا۔ الکَرْهُ والکُرْهُ (مص): انکار اور مشقت، جس پر کسی کو مجبور کیا جائے اور بعض کے بقول کُرْهُ بالضم جس پر تم اپنے آپ کو مجبور کرو اور کَرْهُ بالفتح جس پر کوئی غیر تمہیں مجبور کرے اور کہا جاتا ہے۔ شیئٌ کَرْهٌ مکروہ چیز، رَجُلٌ کَرْهٌ: ناراض مرد۔ وَجْهٌ کَرْهٌ: قبیح چہرہ۔ فَعَلَهٗ کَرْهًا: یعنی اس نے اس کو مجبوراً کیا۔ الکَرِهُ: قبیح۔ الکَرَاهَةُ (مص): سخت زمین۔ الکَرَاهِیَنُ: کراہت کہا جاتا ہے۔ اَتَیْتُكَ کَرَاهِیَنَ اَنْ تَغْضَبَ: تیرے غضبناک ہونے کی کراہت سے میں تیرے پاس آیا۔ الکَرِیهَةُ ج کَرَائِهُ مونث الکَرِیهُ کی: لڑائی کی شدت، مصیبت، کہا جاتا ہے۔ لَقِیتُ دُونَهٗ کَرَائِهَ وَمَکَارِهَ: اس کی وجہ سے میں مصیبتوں اور پریشانوں سے دوچار ہوا۔ ذوالکَرِیهَة: شمشیر براں، قاطع تلوار۔ المَکْرَهُ ج مَکَارِهُ: مکروہ، ناپسندیدہ، المُکْرَهَةُ و المَکْرُهَةُ ج مَکَارِهُ: ناپسندیدہ۔ دشوار چیز۔ المَکْرُوهُ (مفع): شر۔ المَکْرُوهَةُ: سختی کہا جاتا ہے۔ هُوَ ذُو مَکْرُوهَةٍ: وہ سختی میں ہے۔

○ کَرِهَ ہ: پر غصہ کرنا، طیش کھانا، سے متنفر ہونا، نفرت کرنا، کراہت کرنا، گھن کھانا، کو ناپسند کرنا۔ کَرُهَ ـُ کَرَاهَةً: ناپسند ہونا، قابل نفرت ہونا، نفرت انگیز ہونا۔ کَرَّهَ ہ/علی ہ: کو سے متنفر کرنا۔ — ہ/الی ہ: میں کسی چیز سے نفرت جگانا یا ابھارنا۔ اَکْرَهَ ہ علی: کو پر مجبور کرنا۔ تَکَرَّهَ ہ: سے نفرت رکھنا، سے نفرت محسوس کرنا، نفرت کرنا۔ اِستَکْرَهَ ہ: سے نفرت رکھنا، سے نفرت محسوس کرنا، سے نفرت کرنا۔ — ہ علی: کو پر مجبور کرنا۔ کَرْه و کُرْه: نفرت، ناپسندیدگی، جبلی نفرت، کراہت، بیحد یا سخت نفرت، تنفر۔ کَرْهًا و کُرْهًا و علی کُرْه و علی کُرْهٍ منه: نارضامندی سے، بیدلی سے، ہچکچاہٹ سے، بادل نخواستہ، لاچاری سے، مجبوراً، جبراً، قہراً، ناجائز دباؤ میں آکر۔ کَرِه: قابل نفرت، سخت ناپسندیدہ، ناگوار۔ کَرِیه: ناخوشگوار، ناپسند، ناگوار، کریہ، گھناؤنا، نفرت انگیز۔ کَرَاهَة: بمعنی کَرْه و کُرْه۔ کَرَاهِیَة: بمعنی کراهة نیز بمعنی: تضاد، ناموافقت (طلاق کی وجہ کے طور پر)، حرامی پن، پاجی پن، کمینہ پن، مکروہ پن، لائق ملامت ہونا۔ علی کَرَاهِیَة: نارضامندی سے، بادل نخواستہ، بے دلی سے، لاچاری سے۔ کَرِیهَة جمع کَرَائِه: آفت، مصیبت، اِدبار، نحوست، بدقسمتی،

بدنصیبی، سیاہ بختی۔ مَکْرَہ: قابلِ نفرت چیز، ناخوش گوار صورت حال۔ مَکْرَهَة و مَکْرُهَة: نفرت، سخت نفرت۔ مَکَارِہ: قابلِ نفرت چیزیں، مصائب، آفات، افتادیں۔ اِکْرَاہ: مجبوری، زبردستی، زور آوری، دباؤ، زور، قہر، بل، طاقت، قوت، شہ زوری، قوت کا استعمال۔ بِالاِکْرَاہ: زبردستی، زبردستی سے۔ اِکْرَاهی: لازمی، جبری، بالجبر، تشدد آمیز۔ تکَرُّہ: نفرت، کراہت، ناپسندیدگی، بیر، بے زاری، ناخوشی، تنفر، گھن۔ کَارِہ: بےدل، نارضامند، ناخوشی، بے مرضی کا، بے دلی کا، متنفر، مخالف۔ مُکْرَہ: جبر کیا ہوا، مجبور کیا ہوا۔ مُتَکَرِّہ: نارضامند، ناخوش، غیر آمادہ۔

کرو ۱۔ کَرَا یَکْرُوْ کَرْوًا الارضَ: زمین کھودنا۔ ۔البئرَ: کنویں کا منہ درختوں کے تنوں سے بنانا۔

۲۔ کَرَا یَکْرُوْ کَرْوًا الامرَ: کا بار بار اعادہ کرنا۔ بالکُرَةِ: گیند سے کھیلنا۔ الکُرَةُ ج کُرًی و کُرِیْنٌ و کِرِیْنٌ و کُرَاتٌ و اُکَرٌ: ہر وہ چیز جس کو تم گول بناؤ، ہر گول چیز اور اس کی طرف نسبت کے لئے۔ کُرَوِیٌّ و کُرِیٌّ اور اس سے ہے الکُرَاتُ: ورزشی کھیلوں میں مستعمل گیندیں جیسے باسکٹ بال، فٹ بال وغیرہ۔ الکُرَةُ السَّمَاوِیَّةُ (فلک): کرہ آسمانی ایک خیالی کرہ جس پر ستارے بھی فرض کر لئے گئے ہیں اس کا مرکز زمین کا ہی کوئی ایک حصہ ہے اس کا قطر لامتناہی طور پر بڑا ہے جہاں زمین اور ستاروں کے اندازے پہنچے ہیں۔ الکُرَةُ السماویة المحلیة الخاصة بمکان مامن الارض (فلک): آسمانی کرہ، جس پر اس جگہ کی مقداریں تحریر کی جاتی ہیں۔ جیسے افق، سمت الراس، نظیر السمت، خط الزوال اور جہات اربعہ۔ خط زوال اور جہات اربع۔ کُرَةُ الثوابت (فلک): اپنی جگہ جمے ہوئے ستاروں کا گرد آسمانی۔

۳۔ کَرَا یَکْرُوْ کَرْوًا ت الدابَّةُ: تیز دوڑنا۔

۴۔ کَرِیَ ۔ کَرًا ت المرأةُ: عورت کا موٹے بازوؤں والی ہونا۔ ــــ ت الساقُ: پنڈلی کا باریک ہونا۔ الکَرَا: بازوؤں کی موٹائی یا پنڈلیوں کی باریکی۔

۵۔ الکَرَا (ح) کَرَوَان کا مذکر۔

الکَرَوَانُ مونث کَرَوَانَةٌ ج کِرْوَانٌ و کَرَاوِیْنُ (ح): لمبی ٹانگوں، بھورے رنگ اور لمبی چونچ والا ایک پرندہ کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو سوتا نہیں جبکہ اس کا نام اس کے الٹ رکھا گیا ہے، کیونکہ کری کا معنی اونگھ ہے۔

۶۔ الکَرُّوسَةُ: چھکڑا، سواری (اطالوی)

۷۔ الکَرَوِیَا والکَرَوِیَاءُ: زیرہ (یونانی)

کری: ۱۔ کَرَی یَکْرِیْ کَرْیًا الرجلُ: تیز دوڑنا۔ ــ المُکَرِّیُ من الابل: آہستہ و نرم رفتار اونٹ۔

۲۔ کَرَی یَکْرِیْ کَرْیًا النہرَ: نہر میں نیا گڑھ کھودنا۔

۳۔ کَرَی یَکْرِیْ کَرْیًا بالکرة: گیند سے کھیلنا۔

۴۔ کَرِیَ یَکْرٰی کَرًی الرجلُ: اونگھنا صفت کَرٍ و کَرِیٌّ و کَرْیَانٌ۔ اَکْرٰی اِکْرَاءً فلانٌ: طاعتِ الٰہی میں شب بیداری کرنا۔ تکَرّٰی تکَرِّیًا: سونا۔ الکَرِیُّ ج اَکْرِیَاءُ: اونگھنے والا۔ الکَرْیَان: اونگھنے والا۔

۵۔ کَارٰی مُکَارَاةً و کِرَاءً ہُ الدابَّةَ او الدارَ: کو چوپایہ یا مکان کرایہ پر دینا صفت مُکَارٍ۔ اَکْرٰی اِکْرَاءً فلانًا دابتةً او دارَةً: کو چوپایہ یا مکان کرایہ پر دینا اور اسم الکَرْوُ والکُرْوُ والکَرْوَةُ۔ تکَارٰی واسْتَکْرٰی الدارَ وغیرھا: مکان وغیرہ کرایہ پر لینا۔ اِکْتَرٰی منہ الدارَ وغیرھا: سے مکان وغیرہ کرایہ پر لینا۔ الکِرَاءُ والکِرْوَةُ: کرایہ الکَرِیُّ ج اَکْرِیَاءُ: کرایہ پر لینے والا، کرایہ پر دینے والا المُکَارِیُ ج مُکَارُوْنَ: جانوروں کو کرایہ پر دینے والا اور اب اکثر گدھے اور خچر والوں پر بولا جاتا ہے۔

۶۔ اَکْرٰی اِکْرَاءً الشیئُ: زیادہ ہونا، کم ہونا (ضد) ــ الامرَ: کو موخر کرنا، پیچھے ڈالنا۔ ــ الحدیثَ: بات طویل کرنا۔ الکَرِیُّ: بہت چیز۔

۷۔ الکَرِیُّ واحد کَرِیَّةٌ (ن) ایک درخت جو ریگستان میں اگتا ہے۔

○ کَرْو: کھودنا، کھدائی۔ کُرَة جمع کُرَات و کُرًی: گولا، گول چیز، گیند۔ کُرَةُ الأرض و کُرَةٌ اَرْضِیَةٌ: کرہ زمین، کُرَةُ الثلج: برف کا گولا۔ کُرَةُ السلة: باسکٹ بال۔ کُرَةُ الطاوُلة: ٹیبل ٹینس۔ کُرَةُ القَدَم: فٹ بال کُرَةُ الکواکِب: حرم سماوی۔ کُرَاتُ لَحْم: کوفتے، قیمہ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں۔ کُرَةُ الید: ہاتھ کی گیند، نِصفُ الکُرَة: نصف کرہ۔ کُرَیَّة: قطرہ۔ الکریات الحمراء: (احمر)، خون کے سرخ جسمیات (سیلز)۔ کُرِی و کُرَوِی: کروی، قطراتی، گول، گیند کی شکل کا، گیند جیسا، کروی شکل کا، مُدَوَّر؛ خون کا قطروں پر مشتمل۔ کُرَوِیَة: گولائی، کرویت۔ مدوریت، کُرَوِیَةُ الأرض: زمین کی گولائی، کَرَوان و کِیروان: لمبی ٹانگوں کے پرندہ کی ایک قسم۔ کَرُوب و کَرُوبی جمع کروبیون و کَرُوبیم: فرشتۂ اعظم۔ کَرُوسة جمع کروسات: بگھی۔ کَرَیکی جمع کَرِیکیات: کیک، ڈونٹ،

خاکہ، مُسَوَّدَہ

کَرُوم: ایک دھاتی عنصر۔ کَرَوِیَا: زیرہ، زیرہ رومی۔

کَرِیَ ۔ کَرًی: سونا، سویا ہوا ہونا، محو خواب ہونا۔

○ کَرَیَ ـــ کَرْیًا ہ: کو کھودنا (جیسے نہر کھودنا) کَارَی واَکْرَی ہ ہ: کو کچھ کرایہ پر دینا۔ تکَرَّی: سونا، سویا ہوا ہونا، محو خواب ہونا۔ اِکْتَرَی واِسْتَکْرَی ہ: کو کرائے پر لینا، پٹے پر لینا۔ ـــ ہ: کو ملازم رکھنا، نوکر رکھنا، کی خدمات حاصل کرنا۔ کَرًی: نیند، خواب۔ کِرَاء: کرایہ، پٹہ، امکانی کرایہ، اجرت، کرایہ پر لینا یا دینا، اجرت، تنخواہ۔ اِکْرَاء: کرایہ، کرایہ پر لینا، یا کرایہ پر دینا، پٹہ پر دینا، ٹھیکہ پر دینا۔ اِکْتِرَاء: کرایہ، کرایہ پر لینا یا دینا، پٹہ پر لینا، مُکَارٍ جمع مُکَارُون: بھاڑے پر لینے یا دینے والا (خصوصاً گھوڑوں، گدھوں اور خچروں کو)، گدھے ہانکنے والا، خچر والا، خچربان۔ مُکْرٍ: پٹہ دینے والا، اجارہ یا ٹھیکہ دینے والا، کرایہ پر لینے والا، مکان والا، زمیندار، مُکْرًی: کرایہ یا پٹہ لیا دیا ہوا۔ مُکْتَرٍ و مُسْتَکْرٍ: کرایہ پر لینے یا دینے والا، مزارع، لگان دار، کرایہ دار، پٹہ پر لینے والا مکتر ثان: ضمنی پٹہ دار، ضمنی کرایہ دار، کَرِّی: شوربہ دار سالن، سالن۔

○ کَرِیْطة جمع کَرَارِط: چھکڑا، مال برداری کی گاڑی، کَرَارِطی: چھکڑا بان۔ کُرِیک جمع کُرِیکات: بیلچہ۔ کَرِیم: کریم۔ کریم الحلاقة: شیونگ کریم۔ کَرِیمَة: کریم، (مسالہ کے طور پر پیش کردہ) ایک قسم کی گاڑھی چٹنی۔

کز: کَزَّ ـُ کَزًّا الشیئَ: کو تنگ کرنا۔ ـ ت خطاہ: کے قدم قریب قریب ہونا۔ ـ ت المرأةُ دملجها: عورت کا بازو بند کو بازو سے بھر دینا۔ ــــ کَزَازَةً و کُزُوزَةً: سکڑنا، خشک ہونا۔ عوام کہتے ہیں۔ کَزَّ علٰی اَسْنَانِہ: غصے کی وجہ سے دانت پیسنا۔ کُزَّ: کو سردی سے کپکپی لاحق ہونا۔ زکام ہونا۔ اَکَزَّ اللّٰہُ فلانًا: اللہ کا کسی کو کپکپی کی بیماری لگانا صفت مفعولی مَکْزُوزٌ۔ اِکْتَزَّ: سکڑنا۔ الکَزُّ (مص) ج کُزٌّ: سکڑا ہوا یا خشک کہا جاتا ہے۔ وَجْہٌ کَزٌّ: قبیح چہرہ اور کہا جاتا ہے۔ ذَهَبٌ او جَمَلٌ کَزٌّ: یعنی بہت ٹھوس اور مضبوط سونا یا اونٹ اور کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ کَزُّ الیَدَیْنِ: فلاں بخیل ہے۔ الکَزَّةُ: الکَزُّ کی مونث، کہا جاتا ہے قَوْسٌ کَزَّةٌ: یعنی ایسی کمان جس کی لکڑی خشک ہے مڑتی نہیں ہے اور بَکَرَةٌ کَزَّةٌ: یعنی تنگ چرخی الکَزَزُ: بخل۔ الکُزَازُ والکُزَّازُ (طب): سخت سردی کی وجہ سے کپکپی یا ایک مرض کا نام ہے۔

◌ کَزَّ ـُ کَزَازَۃً و کُزُوزَۃً: خشک اور سخت ہو جانا، سوکھ جانا، سوکھ کر جھریوں دار ہو جانا، سکڑ جانا، مرجھانا۔ ــــ من: سے نفرت و بیزاری رکھنا، پر کراہت محسوس کرنا، سے ناپسندیدگی رکھنا۔ ــــ ہ: کو سکیڑنا، تنگ کرنا۔ کُزَّ: تشنج زدہ ہونا۔ کزّ علی اَسْنَانِہٖ: دانت پیسنا۔ کَزٌّ جمع کُزٌّ: خشک، مرجھایا ہوا، سکھایا ہوا، رطوبت خارج کیا ہوا، سکڑا ہوا، سخت، غیر لچکدار، نہ جھکنے والا، بے لوچ، سخت۔ کزّ الیدین: کنجوسی بخل والا، کنجوس۔ کَزَاز: کنجوسی، بخیلی۔ کُزَاز و کُزَّار: تشنج۔ کَزَازۃ: خشکی، بیزاری، افسردگی، اکتاہٹ، کنجوسی، سختی، بے لوچی۔

◌ کُزبَرَۃ و کُزبُرَۃ: دھنیا، کشنیز۔

◌ کَزَرُونَۃ: پکانے کا برتن۔

کزب: ۱۔ کَزِبَ ـَ کَزَبًا مُشطُ الرِجلِ: پاؤں کی ہڈی کا چھوٹا ہونا اور سکڑنا۔

۲۔ الکُزبَرَۃُ والکُزبُرَۃُ والکَزبُرَۃُ: (ن): دھنیا کا پودا، اس کا اصل گہوارہ جنوبی یورپ ہے۔ اس کے پتے گلابی یا سفید رنگ کے ہوتے ہیں یہ بعض مشروبات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کُزبُرَۃ البئر: (ن): یہ سرخس کا ایک پودا ہے اس کے باریک باریک پتے ہوتے ہیں اور شاخیں بھی باریک ہوتی ہیں اور بالوں جیسی ملائم ہوتی ہیں یہ غاروں میں اور چشموں کے کناروں پر اگتا ہے۔

کزم: ۱۔ کَزَمَ ـُ کَزمًا: منہ بند کرنا اور چپ رہنا۔ الجوزۃَ ونحوَھا: اخروٹ وغیرہ کو اگلے دانتوں سے توڑنا اور گری نکالنا۔ ــــ ہٗ: کو دانت سے سخت کاٹنا۔ کَزِمَ ـَ کَزَمًا: بخیل ہونا، بہت کھانیوالا ہونا، صفت اَکزَمُ۔ کَزَّمَ البردُ اَصابعَہٗ: سردی کا انگلیوں کو سکڑا دینا۔ اَکزَم: سکڑنا۔ تَکَزَّمَ الفاکھۃ: پھل کو بغیر چھیلے ہوئے کھانا۔ الکَزمُ: تنگ ہتھیلی اور چھوٹی انگلیوں والا۔ الکَزَمُ: بہت کھانا، ناک یا انگلیوں کی کوتاہی، گھوڑے وغیرہ کے ہونٹ کی چھوٹائی اور موٹائی، بخل، کہا جاتا ہے۔ فِی یَدِہٖ کَزَمٌ: جبکہ افعال خیر کے لئے ہاتھ نہ کھلے۔ المنکَزِمُ: چھوٹی ہتھیلی اور قدموں والا۔

۲۔ کَزِمَ ـَ کَزَمًا: میں پیش قدمی سے ڈرنا۔ اَکزَمَ عن الطعام: بہت کھانا یہاں تک کہ خواہش باقی نہ رہے۔ الکَزِمُ من الرجال: بزدل خائف مرد۔ الکَزمَانُ من الرجال: اتنا کھانے والا کہ ناپسند کرنے لگے۔

کزر: الکَزُوَرِینَا (ن): ایک آسٹریلوی اور باسفک کے جزائر کا پودا، جسے تزئین کے لئے اگایا جاتا ہے۔

کس: ۱۔ کَسَّ ـُ کَسًّا الشیئَ: کو باریک کوٹنا۔ الکَسِیسُ: خشک شدہ گوشت کہ اس کو کوٹ کر باریک کر لیتے ہیں اور بطور توشہ کے سفر میں لے جاتے ہیں، شکر بقول بعض شراب جو جو اور بھٹہ سے بنی ہوتی ہے، کھجور کی نبیذ۔

۲۔ کَسَّ ـَ کَسَسًا: چھوٹے چھوٹے دانتوں والا ہونا۔ چھوٹے تالو والا ہونا صفت۔ اَکَسُّ مونث کَسَّاءُ ج کُسٌّ۔ الکَسِیسُ: ٹوٹی ہوئی روٹی۔ المَکسُوسُ (مفع): ٹوٹی ہوئی روٹی۔

۳۔ کَسکَسَ کَسکَسَۃً الشیئَ: کو باریک کوٹنا۔ الکُسکُس (ط): آٹے اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنایا ہوا کھانا۔ الکَسکَسَۃُ (مص): وقف کے وقت مونث کی کاف کو سین کے ساتھ ملا دیتے ہیں جیسے بِکِس و اَکرَمتُکِس، بکِ اور اَکرَمتُکِ میں یہ بنو تمیم کی لغت ہے۔ الکَسکَاسُ: موٹے جسم کا چھوٹے قد کا آدمی۔

کسا: کَسَأَ ـَ کَسأً: کا پیچھا کرنا۔ الدابۃَ: چوپایہ کو ہانکنا۔ ــــ القومَ: پر جھگڑے میں غالب آنا۔ ــــ ہٗ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ الکَسءُ من اللیل: رات کا ایک ٹکڑا۔ الکُسءُ والکُسُوءُ من کل شیئٍ ج اَکسَاءٌ: پچھلا حصہ، کہا جاتا ہے۔ رکِبَ کُسأَہٗ: یعنی وہ گدی کے بل گرا۔ واتینا فِی اَکسَاءِ الشَّھرِ: یعنی ہم مہینہ کے آخر میں آئے۔ وَمَرُّوا فِی اَکسَاءِ المُنھَزِمِینَ اَو عَلٰی اَکسَائِھِمْ: یعنی وہ لوگ شکست خوردہ جماعت کے نشان قدم پر اور ان کے پیچھے گئے۔

کسب: ۱۔ کَسَبَ ـِ کَسبًا و کِسبًا الشیئَ: کو جمع کرنا۔ مالًا وعِلمًا: مال یا علم حاصل کرنا، طلب کرنا، کمانا۔ الاثمَ: گناہ اٹھانا۔ لاھلہ: کے لئے کمائی کرنا۔ ــ و کَسَّبَ اَکسَبَ فلانًا مالا او علما: کو مال یا علم حاصل کرانا۔ تکَسَّبَ مالا او علما: مال یا علم حاصل کرنا۔ ــ الرجلُ: کمانے کی کوشش کرنا۔ ــ و اِستَکسَبَ فلانًا: کو کمائی کرانا۔ اِکتَسَبَ مالاً او علمًا: علم یا مال حاصل کرنا، کی کمائی کرنا۔ الکَاسِبُ (فا) ابُو کَاسِبٍ (ح): بھیڑیا۔ الکَاسِبَۃُ ج کَوَاسِبُ (الکَاسِبُ کی مونث): الکواسب: انسان یا پرندے کے اعضاء۔ الکَسبُ (مص): کمائی۔ الکِسبَۃُ والکَسِیبَۃُ: کمائی۔ الکَسَّابُ والکَسُوبُ: بہت کمائی کرنے والا۔ المَکسَبُ والمَکسِبُ والمَکسِبَۃُ ج مَکَاسِبُ: کمائی۔

۲۔ الکُسبُرَۃُ (ن) دھنیا۔

کست: الکَستَنَۃُ او القَسطَلُ (ن): شاہ بلوط یہ "بلوط" کی جنس کا ایک پودا ہے اس کی عمر کئی سو سال ہوتی ہے۔ معتدل آب و ہوا والے ممالک مثلاً یورپ یا ترکی میں پایا جاتا ہے یہ چونا مٹی میں برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس کا پھل بھون کر کھایا جاتا ہے۔ کَستَنَۃُ الحِصَانِ او قَسطَلَۃُ الحِصَانِ (ن): یہ صابونی جنس کا درخت ہے موسم بہار میں اس پر سفید رنگ کے پھولوں کے گچھے نظر آتے ہیں یا ان کا رنگ گلابی ہوتا ہے اس کا پھل گندمی رنگ کا ہوتا ہے جو کہ کستنہ کے پھل جیسا ہوتا ہے لیکن یہ کڑوا ہوتا ہے کھایا نہیں جا سکتا۔

◌ کَسَبَ ـِ کَسبًا ہ کو حاصل کرنا، جیتنا، اکتساب کرنا، پیدا کرنا، کمانا۔ ــــ: نفع و فائدہ اٹھانا، استفادہ کرنا، جیتنا، کمانا، حاصل کرنا۔ کَسَبَ ھُتَافًا: کے لئے خوش آمدید حاصل کرنا، کیلئے با آواز تحسین و آفرین کہلوایا جانا۔ ماکسبت یداہُ: آخرت میں اچھے برے اعمال کی کمائی۔ کَسَّبَ ہ ہ کو کچھ حاصل کرانا یا کرنے دینا۔ ــــ ہ: کو نفع میں حصہ لینے دینا۔ ــــ اَکسَبَ ہ ہ کو کچھ حاصل کرانا یا کرنے دینا، کیلئے کچھ حاصل کرنا۔ ــ ہ / ہ ہ کو کا حصہ دینا، کچھ پہنچانا، اکسب مَنَاعَۃً ضِدَّ: کو سے محفوظ کرنا، مستثنیٰ کرنا، تکَسَّبَ ہ کو کمانا، حاصل کرنا، پانا، اِکتَسَبَ بمعنی بالا نیز۔ ــــ ہ کا کسی کے پاس ہونا، پر قابض ہونا، کا مالک ہونا۔ ــ ہ (کوئی نئی خوبی، رنگ، مختلف، رخ، پہلو وغیرہ) اختیار کرنا۔ کَسب جصول، تحصیل، اکتساب، آمدنی، کمائی، نفع، فائدہ، جوئے کی جیت، حاصل شدہ چیز، حاصل کیا ہوا علم، علم، علم و فضل، کُسب و کُسبَۃ: کھلی مَکسَب و مَکسِب و مَکسِبَۃ جمع مَکَاسِب: نفع، فائدہ تَکَسُّب: منافع کمانا، حصول، تحصیل، اکتساب، دستیابی، آمدنی، کمائی، نفع، فائدہ۔ اِکتِسَاب: حصول، تحصیل، اکتساب، حاصل کرنا، پانا، جیتنا۔ اکتسابٌ بِمرورِ الزمان: طویل قبضہ کی بنا پر حق ملکیت۔ کَاسِب: جیتنے والا، کمانے والا، مہیا کرنے والا، روزی رساں۔ مُکسِب: نفع بخش، پر منفعت۔ کُسبُرَۃ: (بمعنی کزبرہ): دھنیا، کشنیز، کُستُبَان جمع کَسَاتِبین: انگشتانہ، شام، چھلا، سیتے وقت انگلیوں کی حفاظت کے لئے پہنا جانے والا چھلا۔

◌ کُستَك و کُستِیك جمع کَسَاتِك: گھڑی کی چین

◌ کُستُلِیَۃ و کُستَلِیَۃ: کباب، پسندے، تکہ بوٹی۔

کسح: ۱۔ کَسَحَ ـَ کَسحًا البیتَ: گھر میں جھاڑو

دینا۔ ـــ ت الريحُ الأرضَ: ہوا کا مٹی کو اڑا لے جانا۔ ـــ الشيئَ: کو کاٹنا اور لے جانا، (کہا جاتا ہے۔ اَتَيْنَا بَنِيْ فُلَانٍ فَكَسَحْنَاهُمْ یعنی ہم فلاں لوگوں پر پہنچے اور ان کو نیست و نابود کردیا۔) كَسِحَ ـــ كَسَحًا: ایک پاؤں بوجھل ہونے کی وجہ سے گھسٹ کر چلنا، (صفت أَكْسَحُ ج كُسْحَانٌ:) ہاتھ پاؤں کا بے حس ہونا، کہا جاتا ہے۔ مَا أَكْسَحَهُ: وہ کس قدر بوجھل ہے۔ اِكْتَسَحَ الشيئَ: کو لے جانا، کہا جاتا ہے۔ اَغَارُوْا عَلَيْهِمْ فَاكْتَسَحُوْهُمْ: یعنی انہوں نے ان کو لوٹا اور ان کا سارا مال لے گئے۔ كَاسِحَةُ الْأَلْغَامِ وتُسَمّٰى اَيْضًا كَانِسَةَ الْأَلْغَامِ: سرنگیں ہٹانے یا صاف کرنے والا جہاز Mine sweeper۔ الكَسْحُ (مص): عاجزی۔ الكَسِيحُ: وہ شخص کہ امداد طلبی پر تمہاری مدد نہ کرے۔ الكُسَاحُ: اونٹوں کی ایک بیماری۔ الكُسَاحَةُ: کوڑا کرکٹ، ہاتھ پاؤں کی بے حسی اور اکثر پاؤں کی بے حسی کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ الكَسِيحُ والكُسَيْحُ والكُسْحَانُ: ہاتھ پاؤں کی بے حسی والا۔ الأَكْسَحُ ج كُسْحَانٌ: ہاتھ پاؤں کی بے حسی والا، لنگڑا، لنجا۔ المِكْسَحَةُ: جھاڑو۔ المُكَسَّحُ: چھیل کر ہموار کیا ہوا، کہا جاتا ہے۔ عُوْدٌ مُكَسَّحٌ: ہموار لکڑی۔ جَمَلٌ مَكْسُوْحٌ (مفع): سخت لنگڑا اونٹ۔

۲۔ كَاسَحَ مُكَاسَحَةً هُ: سے بہت سخت جھگڑا کرنا۔

○ كَسَحَ ـــ كَسْحًا: جھاڑو دینا، صاف کرنا، صفائی کرنا، خالی کرنا۔ كَسِحَ ـــ كَسَحًا: لنگڑا ہونا، لولا ہونا۔ كَسَّحَ هُ: کو لنگڑا لولا کرنا۔ ـــ ه: کو موڑنا، مروڑنا، ٹیڑھا کرنا۔ اِكْتَسَحَ ه: کو بہا لیجانا، سے آگے نکل جانا، ندی نالے کا پانی سے بھر کر ابل جانا اور زمین پر پھیل جانا، کو پانی سے بھر دینا۔ ـــ ه: (مفتوحہ شہر) کو تاخت و تاراج کرنا، میں لوٹ مار کرنا، کو تباہ کردینا۔ ـــ ه: کو چھین لینا، اچک لینا، قبضہ میں لے لینا۔ كَسْح: جھاڑو دینا، صفائی کرنا، لنگڑا پن، فالج، لقوہ، معذوری، كُسَاح: سوکھا (بیماری) كُسَاحَة: فضلہ، کوڑا کرکٹ، خش و خاشاک، ردی چیزیں۔ كَسِيح: لنگڑا، مفلوج، لولا أَكْسَح: لنگڑا، لولا، مفلوج، شل اعضاء والا، بن اعضاء والا۔ مِكْسَحَة: لمبی جھاڑو۔ اِكْتِسَاح: بہا لیجانا، اٹھالے جانا، علیحدگی، اخراج، سیلاب کا پھیل جانا، کناروں سے بہنا، تہ آب ہونا، غرقابی۔ استحصال بالجبر، غصب، قبضہ بالجبر، ضبطی۔ كَاسِحَةُ الالغام: سرنگیں ہٹانے یا صاف کرنے والا جہاز۔ مُكَسَّح: لولا، لنگڑا کیا ہوا، لولا، لنگڑا، لنگڑا شخص، مفلوج، فالج زدہ۔

كسد :ا۔ كَسَدَ وكَسُدَ ـُـ كَسَادًا وكُسُوْدًا الشيئُ: خواہشمندوں کی کمی کی وجہ سے رائج نہ ہونا۔ ـــ ت السوقُ: بازار میں مندا ہونا۔ (شَيْئٌ کی صفت كَاسِدٌ وكَسِيْدٌ اور سُوْقٌ کی صفت كَاسِدٌ وكَاسِدَةٌ واَكْسَدُ ہے اَكْسَدَ القومُ: مندے بازار والے ہونا ـــ ت السوقُ: بازار میں مندا ہونا ـ الشيئَ: کو غیر رائج بنانا۔ الكَسِيْدُ بمعنى الكَاسِدُ: گھٹیا۔

۲۔ اِنْكَسَدَ ت الغنمُ إلى الغنمِ: بکریوں کا بکریوں کے پاس واپس ہونا، لوٹنا۔

۳۔ الكُسْدُ: قسط، (ایک دوا کا نام)۔

○ كَسَدَ وكَسُدَ ـُـ كَسَادًا وكُسُوْدًا: مالی تجارت کا منڈی نہ پانا، متحرک نہ ہونا یا اچھی طرح نہ بکنا (کاروبار، منڈی کا) مندا ہونا، ست ہونا۔ أَكْسَدَ: (منڈی) کا مندا ہونا، ست ہونا، ماند یا سرد ہونا۔ كَسَاد: سامان تجارت کی عدم فروخت، اقتصادی مندی، سرد بازاری، تجارتی جمود، معاشی انحطاط، کساد بازاری۔ مُكَاسَدَة: دوسرے ملک کی صنعت تباہ کرنے کے لئے وہاں مال کے انبار لگانا۔ كَاسِد و كَسِيْد: بُری طرح فروخت ہونے والا (مال) سامان تجارت کی طلب میں کمی والا (مال)، مندا (کاروبار) ماند، سرد (تجارت) ست (منڈی)۔

كسر :ا۔ كَسَرَ ـِـ كَسْرًا العودَ وكُلَّ صلبٍ: کو توڑنا لیکن توڑنے والی چیز اس میں نفوذ نہ کر سکے۔ المتاعَ: سامان ایک ایک کر کے بیچنا۔ ـــ الشعرَ: شعر کا وزن درست نہ کرنا۔ ـــ الحرفَ: حرف کو زیر دینا۔ الوسادةَ: تکیہ کو موڑنا اور ٹیک لگانا۔ من طرفه وعلى طرفه: نگاہ پست کرنا۔ العسكرَ: لشکر کو شکست دینا۔ فلانًا عن مراده: کو اس کی مراد سے پھیرنا۔ الوصيةَ: وصیت منسوخ کرنا۔ الطائرُ جناحَيْهِ: پرندے کا اترنے کے لئے پروں کو سمیٹنا ـ كُسُوْرًا الطائرُ: پرندے کا اترنے کے لئے پروں کو سمیٹنا۔ كَسِرَ ـَـ كَسَرًا: کاہل ہونا۔ كَسَّرَ: بمعنی كَسَرَ: جب مشدد ہو تو مبالغہ اور کثرت کیلئے ہوتا ہے۔ ـــ الكلمةَ: (یہ حرفیوں کا اصطلاحی لفظ ہے) کلمہ کی بناوٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو جمع مُكَسَّر بنانا کہا جاتا ہے۔ كَسَّرَ الكتابَ عَلٰى عِدَّةِ اَبْوَابٍ: اس نے کتاب کو چند ابواب پر منقسم کیا۔ ـــ ت المرآةُ ونحوُها النورَ على كذا فَتَكَسَّرَ: آئینہ نے فلاں چیز پر روشنی ڈالی اور اس پر روشنی پڑ گئی۔

كَاسَرَ مُكَاسَرَةً هُ في البيع: سے کم قیمت کا مطالبہ کرنا۔ تَكَسَّرَ: ٹوٹنا۔ ـــ الشيئُ: کو توڑنا۔ اِنْكَسَرَ: ٹوٹنا۔ ـــ العسكرُ: لشکر کا شکست کھانا اور پراگندہ ہونا صفت دونوں معنی کے لحاظ سے مَكْسُوْرٌ ہے اور مُنْكَسِرٌ: نہیں کہا جائیگا۔ ـــ الحرُّ: گرمی کم ہونا۔ العجينُ: گندھے ہوئے آٹے کا نرم ہونا اور خمیر ہونا۔ ـــ عن الشيئِ: سے عاجز ہونا۔ اِكْتَسَرَ الشيئَ: کو توڑنا۔ الكَاسِرُ (فا) ج كُسَّرٌ (ح): عقاب، کہا جاتا ہے۔ عُقَابٌ كَاسِرٌ: ٹوٹ پڑنے والا یا شکار کئے ہوئے جانور کو توڑ دینے والا عقاب۔ ـــ كَاسِرُ الحجرِ او القُلْبِ (ن): پتواڑ۔ الكَاسِرَةُ ج كَاسِرَاتٌ وكُسَّرٌ وكَوَاسِرُ: الكَاسِرُ کی مونث۔ الكَوَاسِرُ: شکاری پرندے۔ الكَسْرُ (مص): حرف کے نیچے لگائی جانے والی زیر (ــِـ) بہت کم۔ ـــ ج كُسُوْرٌ و جج كُسُوْرَاتٌ (ع، ح): كسر، ایک سے کم عدد جیسے تہائی، چوتھائی اور اس کے مقابلہ میں صحیح ہے ـــ والكِسْرُ ج اَكْسَارٌ وكُسُوْرٌ: عضو کا جز یا گوشت والی ہڈی کا جزو (کہا جاتا ہے: اَتَيْتُهُ وهو يطعمُ الناسَ من كُسُوْرِ الابلِ: میں اس کے پاس آیا وہ لوگوں کو اونٹ کے اعضاء کھلا رہا تھا) گھر کا ایک کونہ، کونہ خیمہ کا وہ کنارہ جو زمین پر لگا ہوا ہو۔ كُسُوْرُ الاَوْدِيَةِ: وادی کے موڑ (اور اس آخری معنی میں اس لفظ کا واحد نہیں) کہا جاتا ہے۔ هٰذِهِ اَرْضٌ ذَاتُ كُسُوْرٍ: یہ زمین اونچی نیچی ہے۔ الكَسْرَةُ ج كَسَرَاتٌ: كَسَرَ کا اسم مرہ، زیر کی حرکت اور علامت، شکست، کہا جاتا ہے۔ وَقَعَتْ عَلَيْهِمُ الكَسْرَةُ: یعنی وہ شکست کھا گئے وبعينه كَسْرَةٌ مِنَ السَّهْرِ: یعنی اس کی آنکھ میں نیند کا غلبہ ہے اور کہا جاتا ہے۔ هُوَ ذُوْ كَسَرَاتٍ وهَزَرَاتٍ: وہ ایسا شخص ہے جس کو ہر چیز میں نقصان ہوتا ہے۔ الكِسْرَةُ ج كِسَرٌ و كِسْرَاتٌ وكِسَرَاتٌ: ٹوٹی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔ الكُسَارُ والكُسَارَةُ من الحطبِ ونحوِهِ: کھورا چورا، چھیچی۔ الكَسَّارُ: مبالغہ کے لئے فعال کا وزن۔ الكَسِيْرُ ج كَسْرَى وكَسَارَى: ٹوٹا ہوا۔ التَكَسُّرُ (طب): ایسی حالت جس میں سردی گرمی کی وجہ سے اعضاء میں تبدیلی محسوس ہوتی ہو۔ الانكسارُ (ف): شعاعوں کا انتشار یا انعطاف التكسيرُ (مص) (ح): پیمائش۔ المَكْسِرُ ج مَكَاسِرُ: توڑنے کی جگہ، آزمائش، دراصل یہ مِنْ كَسْرِكَ العُوْدَ: (یعنی لکڑی توڑنے) سے ماخوذ ہے تاکہ پتہ چلے کہ لکڑی سخت ہے یا نرم ہے کہا جاتا ہے۔

فلان طیبُ المَکْسِر: یعنی آزمائش کے وقت اچھا ہے۔ مَکْسِرُ الشَّجَرَۃ: درخت کی جڑ یا درخت کا تنا جہاں سے ٹہنیاں توڑی جائیں۔ المُکَاسِرُ من الجیران: وہ پڑوسی جس کے مکان کا گوشہ تمہارے مکان کے گوشے سے ملا ہوا ہو۔ کہا جاتا ہے۔ ھُوَ جَارِی مُکَاسِرِیْ وہ میرا پڑوسی ہے کہ اس کے مکان کا گوشہ میرے مکان کے گوشہ سے ملا ہوا ہے۔ المُکَسَّرُ (مفع) من الاودیۃ: وادی جس کے موڑ بہہ رہے ہوں۔ الجَمعُ المُکَسَّرُ: جمع سالم کی ضد، جس میں جمع بناتے وقت واحد کی حالت سلامت نہ رہے جیسے رجل سے رجال۔ المَکْسُوْرُ (مفع) ۔ صَوْتٌ مَکْسُوْرٌ: کمزور آواز۔ المُتَکَسِّرُ (فا) کہا جاتا ہے رَأَیْتُہٗ مُتَکَسِّرًا: میں نے اسے ست دیکھا ہے۔

۲۔ کَسْرَی وکِسْرَی ج اَکَاسِرَۃُ وَاَکَاسِرُ وکَسَاسِرَۃُ وکُسُوْرٌ: شاہان فارس کا نام اور نسبت کرتے ہوئے کہیں گے کَسْرَوِیٌّ اگر کِسْرَی کی طرف نسبت ہو کِسْرَوِی اور کِسْرِیٌّ: (فارسیہ) الاکْسِیْرُ: وہ چیز جو چاندی وغیرہ کو سونا بنا دے لیکن یہ ان کا فضول خیال ہے (یونانیہ)

○ کَسَرَ ۔ کَسْرًا ہ: کو توڑنا، پاش پاش کرنا، (ہڈی وغیرہ) توڑنا ۔ ہ: (دروازہ وغیرہ) کو توڑ کر کھولنا، (کسی چیز سے) کھولنا، زور لگا کر کھولنا، توڑنا (مجازا: طاقت، مزاحمت وغیرہ کو)، (قانونی فرض) کی خلاف ورزی کرنا، بے حرمتی کرنا، کو تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا، (دشمن کی صفوں میں) بھگدڑ مچانا، (دشمن کو) شکست دینا، (کسی حرف صحیح کے نیچے) زیر لگانا۔ کسر خاطِرَہٗ: کی امید توڑنا، توقع باطل کرنا، کا لحاظ نہ کرنا، کی برملا توہین کرنا، سب کے سامنے سبکی کرنا۔ کُسِرَتِ الرِیحُ: آندھی کا رک جانا، پرسکون ہو جانا۔ کَسَرَ الصَمْتَ: خاموشی توڑنا۔ کَسَرَ العَطَشَ: پیاس بجھانا۔ کسرہ عن مرادِہٖ: کو اپنا مقصد پورا کرنے سے باز رکھنا یا اس کا مقصد پورا کرنے میں حائل ہونا۔ کسر عینَہٗ: کو شرمندہ کرنا۔ کسر قلبَہٗ: کا دل توڑنا، کو بددل کرنا، کی حوصلہ شکنی کرنا، ہمت توڑنا۔ کسر من حِدَّتِہٖ: کسی چیز کو کند کرنا، ٹھنڈا کرنا، ہلکا کرنا، نرم کرنا، کسی شخص یا چیز کو اعتدال پر لانا، کی سختی کم کرنا۔ کَسَّرَ ہ: کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کو پاش پاش کر دینا۔ تکَسَّرَ: ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پاش پاش ہونا، ٹوٹنا، (روشنی کی شعاعوں کا) منعطف ہو جانا، مہذب ہونا، شائستگی سیکھنا۔ اِنکَسَرَ: ٹوٹنا، شکست کھانا، (طاقت، شدت، سختی، تشدد کا) ٹوٹ جانا، منعطف ہونا، (گرمی وغیرہ کا) گھٹنا، کم ہو جانا، (پیاس کا) بجھنا۔ اِنکَسَرَتْ سَاقُہٗ: اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کَسْر: توڑنا، پاش پاش کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ جمع کُسُوْر: ٹوٹ پھوٹ، شگاف، رخنہ، ہڈی کا ٹوٹنا، سڑکنا، شکستگی، کڑک۔ جمع کُسُوْر: کسر، کسر عُشری و اعشاری: کسر اعشاریہ۔ و کسور (ہندسوں کے بعد) اور کچھ، کچھ اوپر جیسے جنیۃٌ و کُسُوْر: ایک پاؤنڈ اور کچھ، ایک پاؤنڈ اور کچھ اوپر۔ کَسْر و کِسْر: کسر البیت، گھر کا گوشہ، کونا۔ جثم فی کسر بیتہ: گوشہ نشینی اختیار کرنا، چاردیواری میں قیام رکھنا۔ کِسْرَۃ جمع کِسَر و کِسْرات: (ٹوٹا ہوا) ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا۔ کَسِیر جمع کَسْرَی و کَسَارَی: ٹوٹا ہوا، تڑکا ہوا، پاش پاش کیا ہوا، شکست خوردہ۔ کَسَّارَۃ: سروتہ، صَلبُ المَکْسِر: توڑنے میں سخت، تنومند، شہ زور، زور آور، مضبوط جسم کا، گھنا ہوا، سخت، مضبوط۔ طَیِّبُ المکسر: آزمائش میں پورا اترنے والا، اپنی قدر و قیمت ثابت کرنے والا، عمدہ قسم کا۔ لَیِّنُ المکسر: نرم، شریف۔ جمع التکسیر جمع مُکَسَّر۔ تکسُّر: ٹوٹا ہوا ہونا، توڑنا، انعطاف۔ تکسُّرُ الاَشِعَّۃ: شعاعوں کا انعطاف۔ اِنْکِسار: ٹوٹنا، ٹوٹا ہوا ہونا، ہڈی کا ٹوٹنا، پھٹنا، خلاف ورزی، رخنہ، جلدی ٹوٹ جانا، شکست، دل شکستگی، حوصلہ شکنی، اداسی، پشیمانی، شعاعوں کا انعطاف، انکسار القلب: شکستہ خاطری، دل شکستگی، پشیمانی۔ کاسِر: توڑنے والا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، وغیرہ۔ جمع کَوَاسِر سفاک (شکاری جانور) کاسِرُ الحَجَر: کوہ ایس کا سرخ، سفید یا زرد پھولوں کا پودا۔ طیرٌ کَاسِرٌ: شکاری پرندہ۔ کَوَاسِر الطیر: شکاری پرندے۔ مَکْسُور: ٹوٹا ہوا، تڑکا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا، شکست خوردہ، ناکام؛ بکسر عاری، لفظ جس کے نیچے زیر ہو۔ مُکَسَّر: ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا، پاش پاش کیا ہوا، ٹوٹا ہوا، ٹوٹی پھوٹی (زبان)۔ مُکَسَّرات: بادام اور سخت پوست کے گری دار میوے۔ جمع مُکَسَّر ٹوٹی ہوئی جمع۔

○ کَسْرُونَۃ: پکانے کا برتن۔

کَسَعَ: ۱۔ کَسَعَ ۔ کَسْعًا ہٗ: کو دھتکارنا، دھتکارتے ہوئے پیچھا کرنا۔ کے چوتڑوں پر ہاتھ یا لات سے مارنا۔ السفینۃَ فی البحر: کشتی کو سمندر میں اتارنا اور چلانا ۔ ہ بکذا: کو کا تابع بنانا، کہا جاتا ہے۔ وَرَدَتِ الخَیلُ یَکْسَعُ بعضُھا بعضًا: گھوڑے اس حال میں آئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے تھے، اور کہا جاتا ہے۔ اِتَّبَعَ فُلَانٌ اَدْبَارَھُمْ یَکْسَعُھُمْ بالسَّیْفِ: فلاں ان کے پیچھے گیا اور وہ ان کو تلوار سے دھتکار رہا تھا۔ کَسَعْتَ الرَّجُلَ بِمَا سَاءَہٗ: جبکہ گفتگو کرے اور آخر میں ایسی بات کہے جو تکلیف دہ ہو۔ الکُسْعَۃ: کام کرنے والے بیل، گدھے (کیونکہ انہیں چھڑی کے ساتھ ہانکا جاتا ہے) غلام

۲۔ کَسِعَ ۔ کَسَعًا و اِکْتَسَعَتِ الخیلُ باذنابھا: گھوڑوں کا ٹانگوں میں دم دبانا۔

۳۔ تکَسَّعَ فی ضلالہ: گمراہی کی انتہا کو پہنچنا۔

۴۔ الکَسَعُ فی الخیل: گھوڑے کے کھر کے پاس جوڑ کے اردگرد سفیدی۔ الکُسَعُ: روٹی کے ٹکڑے۔ الکُسْعَۃُ ج کُسَعٌ: پیشانی پر سفید داغ، پرندے کی دم کے نیچے سفید پر۔ الاَکْسَعُ من الخیل: کھر کے پاس جوڑ کے اردگرد سفیدی والا گھوڑا۔ ۔ من الطیر: دم کے نیچے سفید پر والا پرندہ۔ رَجُلٌ مُکَسَّعٌ: کنوارا مرد۔

کسف: ۱۔ کَسَفَ ۔ کَسْفًا اللّٰہُ الشمسَ او القمرَ: کو اللہ کا گرہن لگانا۔ الشیئَ: کو ڈھانکنا۔ بَصَرَہٗ: نگاہ پست کرنا۔ ت الشمسُ النجومَ: آفتاب کی روشنی کا ستاروں پر غالب آنا۔ ہُ الحزنُ وغیرہُ: غمگین کر دینا۔ کُسُوفًا تِ الشمسُ: آفتاب میں گہن لگنا، (سورج کو گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جائے۔)۔ وجھُہٗ: تیوری چڑھانا۔ ت حالُہٗ: برا حال ہونا۔ بالُہٗ: کے جی میں برا خیال آنا، کی امید کا کھوٹا ہونا۔ تَکَسَّفَتِ الشمسُ: بمعنی کسفت۔ اِنْکَسَفَتِ الشمسُ والقمرُ: آفتاب اور ماہتاب میں گہن لگنا۔ الکَاسِفُ (فا): کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ کَاسِفُ البَالِ: فلاں برے حال والا ہے۔ وکَاسِفُ الوَجْہِ: ترش رو۔ یَوْمٌ کَاسِفٌ: بخت و خوفناک دن۔ رَجُلٌ کَاسِفٌ: غمگین مرد جو غم کی وجہ سے نڈھال ہو گیا ہو اور اس کا رنگ فق ہو چکا ہو۔ الکَسْفُ (مص): عربوں کی ضرب المثل ہے۔ اَکَسْفًا وامْسَاکًا: یعنی کیا ترش روئی اور بخل بھی؟ یہ مثال ترش رو اور بخیل کے لئے بولی جاتی ہے۔

۲۔ کَسَفَ ۔ کَسْفًا الثوبَ: کپڑا کاٹنا ۔ کُسُوْفًا امَلُہٗ: کی امید منقطع ہونا۔ کَسَّفَ الشیئَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الکِسْفَۃُ ج کِسَفٌ وکِسْفٌ واَکْسَافٌ وکُسُوْفٌ: ٹکڑا۔ الکَسِیفَۃُ: ٹکڑا۔

○ کَسَفَ ۔ کُسُوفًا: تاریک ہونا، یا ہو جانا (سورج) کو گرہن لگنا۔ ــــ ہ: کو سرزنش کرنا، کو شرمندہ کرنا۔ اِنکَسَفَ: گرہن لگنا، شرمندہ ہونا، شرمانا۔ کَسْف: اندھیرا ہونا، اندھیرا، تاریکی، کُسُوف حجاب، پوشیدگی، گرہن، گہن، اندھیرا، تاریکی، سورج گرہن۔ انکساف بمعنی بالا۔ کاسِف: غمگین، شکستہ خاطر، رنجیدہ، آزردہ، اداس، افسردہ، دل، سرنگوں، تاریک۔

○ کَسْکَسَ: پیسنا، سفوف بنانا، کوٹنا، پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا۔ کُسْکُسُو اور کُسْکُسِی شمال مشرقی افریقہ کا ایک کھانا۔ کُسْکاس و کَسْکاس: چھلنی جس سے یہ کھانا تیار کیا جاتا ہے۔

کسل: ا۔ کَسِلَ ۔ کَسَلًا و تَکَاسَلَ: کاہل ہونا جس کام میں سستی نہ کرنا چاہئے اس میں سستی کرنا۔ صفت کَسِل و کَسْلَان ج کَسَالٰی و کُسَالٰی و کَسْلٰی و کُسَالٰی مونث کَسِلَۃ و کَسْلَانَۃ و کَسْلٰی۔ أَکْسَلَ الامرُ فلانًا: کو معاملہ کا کاہلی میں ڈالنا۔ الکِسْالَۃ: بےکاری۔ الکَسُول: کاہل، ناز پروردہ لڑکی کا وصف ہے جو اپنی مجلس سے جدا نہ ہو۔ المِکْسَال: کاہل (مذکر و مونث) ناز پروردہ لڑکی جو اپنی مجلس سے جدا نہ ہو۔ نَسَبٌ مِکْسَل: وہ نسب جسے سرداری اور افعال خیر میں خود داری نہ ہو۔ المَکْسَلَۃ: جو چیز کاہلی کا سبب بنے، کہا جاتا ہے۔ الشِّبَعُ مَکْسَلَۃ: آسودگی کاہلی کا باعث ہے اور فُلانٌ لاتُکْسِلُہُ المَکَاسِل: فلاں کو کاہلی کے اسباب کاہل نہیں کرتے۔

۲۔ الکِسْل و المِکْسَل: دھنیا کے کمان کی تانت جبکہ اتار دی جائے۔

○ کَسِلَ ۔ کَسَلًا: سست ہونا، کاہل ہونا، وقت بےکار کھونا۔ کَسَّلَ ہ: کو سست، کاہل، یا بےپروا بنانا۔ تَکَاسَلَ: بمعنی کَسِلَ کَسَل: سستی، کاہلی، بےپروائی، غفلت، بےعملی، نکما پن۔ کَسِل و کَسُول: سست، کاہل، بےکار۔ کَسْلان مونث کَسْلانَۃ و کَسْلٰی جمع کَسَالٰی و کُسَالٰی و کَسْلٰی: سست کاہل، نکما، آرام طلب، بیکار، یونہی پڑا ہوا، بےعمل۔ مِکْسَال: جس کی ہڈیوں میں سستی پڑی ہو، کاہل الوجود۔ تَکَاسُل: سستی، کاہلی، مٹھاپن، آرام طلبی، نکما ہونا۔ مُتَکَاسِل: سست کاہل، آرام طلب، نکما، بےہمت

کسم: ا۔ کَسَمَ ۔ کَسْمًا الیابسَ: خشک چیز کو ہاتھ سے چورا کرنا۔ ــــ علٰی عیالہ: اپنے عیال کے لئے روزی کمانے کے لئے محنت کرنا۔ ــــ نارَ الحرب: لڑائی بھڑکانا۔ الکُسَامُ (مص): خشک چیز کا چورا جو ہاتھوں میں باقی رہ جائے۔ الکَسُوم: گزرنے والا۔

۲۔ الکَسْمُ عِندَ العامَّۃِ: متناسب جسم کہتے ہیں فُلانَۃٌ جَمِیلَۃُ الکَسْمِ: فلاں عورت خوبصورت جسم کی مالک ہے۔ الکَیْسُوم: بہت گھاس، کہا جاتا ہے۔ ہٰذِہٖ رَوْضَۃٌ کَیْسُومٌ و یَکْسُومٌ: یہ سرسبز و شاداب اور گنجان باغ ہے۔ خَیْلٌ اَکَاسِمُ: بہت سے گھوڑے جو ایک دوسرے کے اوپر ہوں۔ رَوْضَۃٌ اُکْسُوم: ج اَکَاسِم: گنجان و سرسبز باغ۔

○ کَسَمَ ۔ کَسْمًا علی عیالہ: اپنے گھر والوں کے لئے روزی کمانا۔ کَسَّمَ ہ: کی شکل بنانا، کو صورت دینا، متشکل کرنا، کو شکل دینا۔ کَسْم: لباس کی قطع، کاٹ، لباس۔ پوشاک، فیشن، شکل، صورت، طریقہ، انداز۔ کَسِیم: ٹیکس، محصول، بلدیاتی محصول۔ تَکْسِیم: بنانا، شکل دینا، تشکیل دینا، ڈھالنا، نقش بنانا مُکَسَّم: خوشنما، خوش شکل، طرح دار، دیدہ زیب۔

کسو: کَسَا یَکْسُو کَسْوًا الثوبَ فلانًا: کو کپڑے پہنانا۔ ــــ ہ شِعْرًا: کی اشعار سے مدح کرنا۔ کَسِیَ یَکْسٰی و کَسِیَ کَسًا الثوبَ: کپڑا پہننا۔ اَکْسٰی الثوبَ فلانًا: کو لباس پہنانا تَکَسَّی تَکَسِّیًا بالکساء: کپڑا اوڑھنا، پہننا۔ اِکْتَسٰی: لباس پہننا۔ ــــ ت الارضُ بالنبات: نباتات سے چھپ جانا۔ اِکْتَسَیْتُہٗ ثَوْبًا: میں نے اسے کپڑے پہنائے۔ اِسْتَکْسٰی فلانًا: کسی سے لباس مانگنا۔ الکَاسِی: (فا) لباس پہننے والا ج کُسَاۃ۔ الکِسَاءُ ج اَکْسِیَۃ: کپڑا۔ الکُسْوَۃ و الکِسْوَۃ ج کُسًی و کِسًی: لباس۔ الاَکْسٰی: بہت پہننے والا، بہت لباس دینے والا، عربوں کی ضرب المثل ہے۔ ھُوَ اَکْسٰی مِنْ بَصَلَۃٍ: یہ مثال اس شخص کے لئے بولتے ہیں جو بہت زیادہ کپڑے پہنے۔

۲۔ کَسِیَ یَکْسٰی کَسًا: بزرگ ہونا۔ کَاسٰی مُکَاسَاۃً فلانًا: پر فخر کرنے میں غالب آنا۔ الکَسَاءُ: بزرگی و شرافت۔

○ کَسَا ــ کَسْوًا ہ ہ: کو کچھ پہنانا، (پوشاک) پہنانا، کو میں ملبوس کرنا، کو کچھ اڑھانا۔ ــــ ہ ہ/ب: کو سے آراستہ کرنا، سے باندھنا، کو (غلاف) چڑھانا، پر (استر) لگانا کو سے منڈھنا، پر خول چڑھانا، (گوشت) لگانا، کچھ لگانا، کو میں بند کرنا، کو سے ڈھکنا، پر (کچھ) رکھنا۔ کساہ صبغۃ کذا: کوئی شکل/وضع قطع دینا، کو کسی جیسا دکھانا۔ کَسِیَ ــ کَسًا: پوشاک پہننا۔ اَکْسٰی ہ: کو کچھ پہنانا اوڑھانا، کو ملبوس کرنا۔ تَکَسَّی: لباس پہننا۔ ــــ ب: میں ملبوس ہونا، سے سنورنا، کچھ پہننا، سے اپنے آپ کو ڈھانپنا۔ اِکْتَسٰی: بمعنی بالا نیز، (درخت کا) پتے نکالنا۔ کِسْوَۃ جمع کُسًی و کِسًی و کَسَاوٍ: لباس، کپڑا، کپڑے، پوشاک، کپڑوں کا جوڑا، وردی، (دیواروں وغیرہ کی) آرائش، استر کاری، تختہ بندی، کپڑے لگانا، نیا پلستر۔ الکِسْوَۃ الشریفۃ: غلاف کعبہ۔ کِسْوَۃ التشریفۃ: تقریبات میں پہننے والا لباس، جشن کی وردی۔ کِسَاء جمع اَکْسِیَۃ: لباس، پوشاک۔

کسی: الکُسْیُ ج اَکْسَاءٌ: چوتڑ کا پچھلا حصہ، ہر چیز کا پچھلا حصہ کہا جاتا ہے۔ رَکِبَ اَکْسَاءَہٗ: وہ گدی کے بل گرا۔

○ کَشَّ ــ کَشًّا من: سے اچھل کر پیچھے ہٹنا (خوف وغیرہ کی وجہ سے) کُشَّۃ: بالوں کی لٹ۔

○ کُشْتُبان و کُشْتِبَان جمع کَشَاتِبِین: انگشتانہ۔

کش: ا۔ کَشَّ ــ کَشًّا و کَشِیشًا الزَّنْدُ: چقماق سے آگ نکلتے وقت سائیں سائیں کی آواز نکلنا۔ ــــ ت الجرۃُ: شراب کے مٹکے میں جوش آنا۔ و۔ کَشِیشًا الجَمَلُ: اونٹ کا پہلی مرتبہ بڑبڑانا۔ ــ ت الحیَّۃُ: سانپ کی کھال سے آواز نکلنا۔ ــ تِ البقرۃُ: گائے کا آواز نکالنا۔ تَکَاشَّ تِ الافاعی: سانپوں کا آپس میں آواز نکالنا۔ الکَشِیشُ (مص): شراب کے جوش کی آواز۔

۲۔ کَشَّ ــ کَشًّا الرجلَ وغیرہٗ: کو دھتکارنا، ڈانٹنا۔ ــ الدجاجۃَ: مرغی کو کش کش کہہ کر ڈانٹنا (عامیہ)۔ ــ الدیکُ: کمزور ہونا اور دوسرے مرغ سے شکست کھا جانا (عامیہ)

۳۔ الکُشُّ: وہ چیز جس سے کھجور کے درخت کو گابھا دیا جائے۔ الکُشَّۃ: پیشانی یا سر کے اگلے حصہ کے بالوں کا گچھا۔

۴۔ کَشْکَشَ کَشْکَشَۃً: بھاگ جانا۔ ــ ت الحیَّۃُ: سانپ کا اپنی جلد سے آواز نکالنا۔ الکَشْکَشُ ج کَشَاکِش: خوبصورتی کے لئے کپڑے پر بارڈر وغیرہ کی گئی کڑھائی۔ ثَوْبٌ مُکَشْکَش: دلکش کڑھائی والا کپڑا (فارسیہ) الکَشْکَشَۃ: (مص) کاف ضمیر خطاب مونث کو شین سے بدل دینا۔ جیسے اَکْرَمْتُشِ و عَلَیْشِ: بجائے اَکْرَمْتُکِ اور عَلَیْکِ کہنے کے۔

کشا: ا۔ کَشَا ــ کَشْوًا الشیءَ: کو چھیلنا۔ فلانًا بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ کَشِیَ ۔ کَشًا و کَشَاءً

ئُ یَدُہٗ: کا ہاتھ پھٹنا، جھری دار ہونا۔ تَکَشَّأَ الشَّیئُ: چھل جانا۔

۲۔ کَشَأَ ـــ کَشْأً اللحمَ: گوشت بھون کر خشک کرنا صفت کَشِیئٌ۔ الرجُلُ: بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا کھانا۔ الشیئَ: کو اگلے دانتوں سے کاٹ کر کھانا۔ وکَشِیَٔ ـَ کَشْأً وکَشَاءً الرجُلُ من الطعام: کو شکم سیر ہو کر کھانا صفت کَشِیئٌ وکَشِیٌّ۔ کَشَّأَ تکشِئَۃً اللحمَ: خشک بھنا ہوا گوشت کھانا۔ اَکْشَأَ اللحمَ: گوشت بھون کر خشک کرنا۔ الرجُلُ: بھونے ہوئے گوشت کا ٹکڑا کھانا۔ تَکَشَّأَ اللحمَ: خشک بھنا ہوا گوشت کھانا۔ الرجُلُ من الطعام: کو پیٹ بھر کر کھانا۔ الکَشِیئُ: بھنا ہوا اور پکا ہوا گوشت۔

۳۔ الکُشَأۃُ: عیب، کہا جاتا ہے مافی جَسَدِہٖ کُشَأۃٌ: اس کے جسم میں کوئی عیب نہیں۔

کشب: کَشَبَ ـِ کَشْبًا و کَشَّبَ اللحمَ: بہت گوشت کھانا۔

کشت: الکُشْتُبَان ج کَشَاتِبِیْنَ: انگشتانہ۔ (درزی جسے انگلی پر چڑھا کر سوئی استعمال کرتا ہے) زَھْرُ الکُشْتُبَان: ایک نباتاتی پودا۔

کشث: الکَشُوثُ والکُشُوثُ والکُشُوثَی والکَشُوثَی والکَشُوثَاءُ: ایک قسم کی طفیلی نباتات جس کی جڑ اور پتے نہیں ہوتے۔ پھول چھوٹے اور گول ہوتے ہیں اور جڑی بوٹیوں کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے۔

○ کَشَحَ ـَ کَشْحًا لہ بالعداوۃ: سے نفرت کرنا، سے دل میں دشمنی رکھنا۔ ھم: (ہجوم) کو منتشر کرنا، تتر بتر کرنا۔ ہ: کو ہانک کر لیجانا، کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا۔ کاشحہ بالعداوۃ: بمعنی کَشَحَ لہ بالعداوۃ۔ اِنْکَشَحَ: منتشر ہونا، تتر بتر ہونا، دور ہونا، زائل ہونا۔ ـ کَشْح جمع کُشُوح: کولھے کا خط، پٹھا، کولھا، پہلو، جانب، کمر، کوزی طوٰی کشحہٗ علی: کو اپنے تک رکھنا، کو راز میں رکھنا۔ طوٰی کشحہٗ (کشحًا) عن: کسی سے رخ موڑنا، سے تعلقات ختم کر دینا۔ وَلّاہ کَشْحَہٗ: کو فراموش کر دینا۔ کُشَاحَۃ: خفیہ اور چھپی دشمنی، نفرت، آزردگی، دل میں بیٹھا ہوا کینہ، تلخی، بغض۔ کاشِح: چھپا دشمن۔

کشح: اکَشَحَ ـــ کَشْحًا البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا۔ القومَ: کو پراگندہ کرنا، دھتکارنا۔ البعیرَ: اونٹ کے پہلو میں داغ لگانا۔ ہ: کے پہلو پر داغ دینا۔ لہ بالعداوۃ: سے دشمنی کرنا۔ عن الماء: پانی پر سے واپس ہونا۔ الطائرُ: پرندے کا تیز واپس آنا۔ الظلامُ اوالضوءُ: تاریکی یا روشنی کا زائل ہونا۔ العودَ: لکڑی چھیلنا یا اس کی چھال اتارنا۔ کُشِحَ الرجُلُ: پہلو پر داغ دیا جانا صفت مَکْشُوحٌ ـــ القومُ عن الماءِ: پانی سے ہٹ کر متفرق ہونا۔ پراگندہ ہونا۔ کَشِحَ ـَ کَشْحًا: کے پہلو کا درد کرنا۔ کَشَّحَ البعیرَ: اونٹ کے پہلو میں داغ لگانا۔ ہ: کے پہلو پر داغ دینا۔ العود: لکڑی چھیلنا، کی چھال اتارنا۔ ہ عند العامۃ: کو بھگانا یا دھتکارنا کہا جاتا ہے کَشَّحَ الذُّبَابَ: مکھی کو بھگانا یہ کَشٍّ سے تبدیل شدہ ہے۔ کَاشَحَ کِشَاحًا ومُکَاشَحَۃً فلانًا بالعداوۃ: سے دشمنی رکھنا۔ اِنْکَشَحَ القومُ عن الماءِ: پانی سے ہٹ کر متفرق ہونا، بکھرنا۔ الکَاشِحُ (فا): پوشیدہ دشمنی رکھنے والا اور بقول بعض وہ شخص جو دشمنی کی بناء پر پہلو تہی کرے۔ الکَشْحُ (مص) من الجسم ج کُشُوحٌ: پہلو، کہا جاتا ہے طَوٰی کشحَہٗ علَی الامْرِ: اس نے کام پر ہمیشگی کی اور کہا جاتا ہے طَوٰی کَشْحَہٗ عَنْ فُلان اَوطَوٰی کَشْحًا عَنْہُ: یعنی اس نے اس سے پہلو تہی کی اور اعراض کیا۔ الکُشَاحُ (طب): پہلو کی بیماری جس پر داغ دیا جاتا ہے اور بعض کے بقول ذات الجنب کو کہتے ہیں۔ الکِشَاحُ: پہلو کا داغ۔ الکُشَاحَۃُ: باطنی عداوت اور قطع تعلق۔ المِکْشَاحُ: کلہاڑا۔ و المِکْشَحُ: تلوار کی دھار۔

۲۔ کَشَحَ ـَ کُشُحَاتِ الدابّۃُ: چوپائے کا ٹانگوں کے درمیان دم دبانا۔

کشد: کَشَدَ ـِ کَشْدًا الشیئَ: کو دانتوں سے کاٹنا۔ ـــ الناقۃَ: تین انگلیوں سے اونٹنی کا دودھ دوہنا۔ اَکْشَدَ: خالص مکھن بنانا۔ الکُشْدَۃُ: مکھن۔ الکَاشِدُ والکَشَدُ والکَشُودُ ج کُشُدٌ: اہل وعیال کے لئے بہت کمانے والا۔

کشر: اکَشَرَ ـِ کَشْرًا عن اَسْنَانِہٖ: ہنسی وغیرہ میں دانت نکالنا اور اس سے اسم الکِشْرَۃُ۔ السبعُ عن نابہ: درندے کا مقابلے میں دانت دکھانا۔ فلانٌ لَہٗ: پر چیتے جیسا بننا۔ کَشَّرَ عن اسنانہ: بمعنی کَشَرَ۔ تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔ کَاشَرَ مُکَاشَرَۃً ہٗ: باہم ہنسنا یا باہم دانت نکالنا۔ اَکْشَرَ لہ عن انیابہ: کو دھمکی دینا۔ تَکَشَّرَ: دانت نکالنا۔ الکُشَرُ: انگور کا خوشہ جس سے انگور کھائے جا چکے ہوں۔ الجارُ المُکَاشِرُ (فا): قریبی پڑوسی۔

۲۔ کَشِرَ ـ کَشْرًا: بھاگنا۔

۳۔ الکُشْرُ: خشک روٹی۔

○ کَشَرَ ـِ کَشْرًا و کَشَّرَ: دانت دکھانا، منہ بنانا، ملی: پر کھیس نکالنا، سے مسکرانا۔ ـــ : گھورنا، قہر آلود نگاہیں ڈالنا۔ کَشَّرَ عن اسنانہ: دانت دکھانا۔ کشر عن نابہ (انیابہ): دانت دکھانا۔ کِشْرَۃ: بنا ہوا منہ، رونی صورت۔ تکْشِیرۃ: دانتوں کی چمک، دمک، کوندھو۔ جاری مُکَاشِری: وہ میرا سب سے نزدیک پڑوسی ہے۔

کشط: کَشَطَ ـِ کَشْطًا الشیئَ: ڈھکی ہوئی چیز کو کچھ کھولنا۔ الجلَّ عن الفرس والغطاءَ عن الشیئِ: جھول کو گھوڑے سے یا ڈھکنے کو کسی چیز سے اتارنا، ننگا کرنا۔ الحرفَ: کو موقع سے ہٹا دینا۔ ـ البعیرَ: اونٹ کی کھال اتارنا۔ تَکَشَّطَ السحابُ فی السماءِ: آسمان میں بادل ٹکڑے ٹکڑے اور متفرق ہونا۔ اِنْکَشَطَ: اتارا جانا، ننگا ہونا۔ الروعُ: خوف زائل ہونا۔ اِسْتَکْشَطَ الشیئَ: کَشَطَہٗ کا ہم معنی۔ ـ البعیرُ: اونٹ کی کھال اتارنے کے وقت کا قریب ہونا۔ الکِشَاطُ: انکشاف، اتری ہوئی کھال۔ الکَشَّاطُ: قصاب۔ الکَشْطَۃُ: کھال اترے ہوئے اونٹوں کے مالک۔

○ کَشَطَ ـــ کَشْطًا ہ: لپٹا ہوا کاغذ، (پوشش وغیرہ) اتارنا، (کچھ) اتارنا، نکالنا، (لکھی ہوئی چیز) محو کرنا، مٹا ڈالنا، (کچھ) الگ کرنا۔ ہ ب: کو سے کھرچنا، چھیلنا، رگڑ کر صاف کرنا۔ مِکْشَط: چھیلنے والا چاقو۔

کشع: کَشَعَ ـَ کَشْعًا القومُ عن قتیلٍ: قوم کا مقتول سے جدا ہو جانا۔ کَشِعَ ـ کَشَعًا: بدول ہونا، زچ ہونا۔

کشف: اکَشَفَ ـِ کَشْفًا وکَاشِفَۃً الشیَّ وعن الشیئِ: کو ظاہر کرنا، کھولنا، کہا جاتا ہے کَشَفَ اللّٰہُ غمَّہٗ: اللہ اس کے غم کو زائل کرے۔ اور کہا جاتا ہے کَشَفَتْہُ الکَوَاشِفُ: یعنی بدنامیوں نے اسے رسوا کر دیا۔ کَشِفَ ـَ کَشَفًا: شکست کھانا۔ الرجُلُ او الفرسُ: آدمی یا گھوڑے کا کھلی ہوئی پیشانی والا ہونا۔ کَشَّفَ الشیئَ: کو کھولنا، ظاہر کرنا۔ ـــ فلانًا عن الامرِ: کو بات ظاہر کرنے پر مجبور کرنا۔ کَاشَفَ ہٗ بکذا: کو سے خبردار کرنا۔ کو پر ظاہر کرنا۔ ـــ ہٗ بالعداوۃ: سے کھلم کھلا دشمنی کرنا۔ اَکْشَفَ: ہنسنے میں مسوڑھوں کو ظاہر کرنا۔ تَکَشَّفَ الشیئُ: ظاہر ہونا۔ ـــ البرقُ: بجلی کا آسمان پر پھیلنا۔ الرجُلُ: رسوا ہونا۔ تَکَاشَفَ القومُ: ایکدوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنا، ایک دوسرے کے راز فاش کرنا۔ اِنْکَشَفَ الشیئُ: ظاہر ہونا۔ اِکْتَشَفَ الشیئَ: کو ظاہر کرنا،

کھولنا،اسی سے ہےالاکتشافات: ان نئی تحقیقات کے لئے جو طبی اور صنعتی امور کے متعلق ہوں اِستَکشَفَ عن الشیی: کوظاہر کرنیکا مطالبہ کرنا۔ الکَاشِفُ ج کَشَفَۃٌ(فا) ۔الکَاشِفَۃُ (مص) ج کَوَاشِفُ۔ الکـاشف کی مونث۔رسوائی۔ الکَشْفُ (مص) ــ عند اصحاب الجمارك (کسٹم والوں کے نزدیک) ایک کاغذ جس پر سامان کی مقداراوراس کاریٹ درج ہوتا ہےعند العروضیین: (اہل عروض کے نزدیک) ساتویں متحرک کا گرا دینا جیسا کہ مفعولات میں تاءکوگرادیااور مفعولا بن گیا جس کو مفعولن کی طرف منتقل کرلیا ــ الالھی عند الصوفیین: وصال الٰہی کے مختلف طریقے اپنا کر صوفی پر حقائق الہیہ کا انکشاف۔صوفیاء کے نزدیک اہل کشف سے مراد وہ لوگ ہیں جو تصوف میں اس اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ ظاہری نگاہ کے بجائے روحانی نگاہ سے حقائق کائنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ الکَشَفُ: سر کے اگلے حصے کے بال گرجانا، پیشانی کے بالوں کا گھنگریالے بن جانا یہ چند بال ہوتے ہیں جو پیشانی پر ابھرے ہوتے ہیں ۔الکَشَفَۃُ: سر کے اگلے حصہ میں بال گرنے کی جگہ۔الکَشَّافُ: اسم مبالغہ سے فعال کاوزن کہا جاتا ہےھُوَ کَشَّافُ الغُمَمِ: وہ غموں کوزائل کرنے والا ہے ـــ ج کَشَّافۃٌ: بوائے سکاؤٹ۔تہذیبی ریاضی وانسانی تنظیم کارکن۔الکَشفِیَّۃُ: تہذیبی ریاضی انسانی تنظیم۔ بوائے سکاؤٹ تنظیم ۔الکَشِیْفُ بمعنی مکشوف کھلا ہوا، ظاہر الاَکْشَفُ: جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گرگئے ہوں۔وہ شخص جس کے پیشانی کے بال گھنگھریالے ہوں۔وہ جس کے پاس لڑائی کے وقت نہ ڈھال ہو اور نہ خود، لڑائی میں شکست خوردہ۔ الکَشْفَاءُ: الاکشف کی مونث ہے۔
۲۔الکَشَفُ فی الخیل: دم کے بالوں کی پیچیدگی۔ الأکشف: وہ گھوڑا جس کے دم کے بالوں میں پیچیدگی ہو۔

○ کَشَفَ ــــ ِ کَشْفًا ہ عن: کو سے نکالنا، الگ کرنا، اتارنا،کھولنا،اٹھانا ہـ / عـن: آشکارا کرنا، ظاہر کرنا، منکشف کرنا،عیاں کرنا، فاش کرنا، بے نقاب کرنا، ننگا کرنا، واضح کرنا، پر روشنی ڈالنا، کی توضیح کرنا، کا اظہار کرنا،کوکھولنا،کومعلوم کرنا،ظاہر کرنا ــ عن: کا مطالعہ کرنا، کی جانچ پڑتال کرنا، تفتیش کرنا ــ علی: کا طبی معائنہ کرنا۔کشف القنـاع عن: کسی چیز یا شخص کو بے نقاب کرنا، کے چہرے سے نقاب اٹھانا۔کشف علیه طِبِیًّا: کا طبی (ڈاکٹری) معائنہ کرنا۔کشفت الحربُ عن ساقِها: جنگ شدید تھی یا شدید ہوگئی، پھیل گئی، یکا یک شروع ہوگئی۔کاشَفَ ہُ ب: کو کچھ دکھانا، پر کچھ واضح کرنا، کو کا ثبوت دینا، کو سے آگاہ کرنا ــ ہ ہ / ب: کے علم میں کچھ لانا، کو کی اطلاع دینا۔کَاشَفَہُ بالعداوۃ: سے کھلی دشمنی واضح کرنا۔ تَکَشَّفَ: فاش ہونا، بے نقاب ہونا، کھل جانا، ننگا ہونا، منکشف ہونا، ظاہر ہونا، منظر عام پر آنا، معلوم ہونا، پتہ چلنا، دیکھا جاسکنا، مرئی ہونا، نظر آنا، دکھائی دینا، واضح ہونا۔عن شیء: کچھ دکھانے کے لئے پوری طرح کھلنا۔تکشفَ الامرُ عن لاشَیْ: معاملہ بے نتیجہ نکلنا۔تَکَشَّفَ عن منتهی العَجْز: خود کو یکسر بے بس ظاہر کرنا۔اِنکَشَفَ: (پردہ کا) ہٹنا، اٹھنا ــ ل: پر فاش ہونا، منکشف ہونا، ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ اِکْتَشَفَ ہ: کو دریافت کرنا (بالخصوص سائنس کے اصولوں کے مطابق) ــ ہ: کو معلوم کرنا، دریافت کرنا، کا پتہ لگانا، کو فاش کرنا۔اِستَکشَفَ ہ: کو دریافت کرنے، کی کوشش کرنا، کا کھوج لگانا، کو تلاش کرنا، کی تحقیق کرنا، چھان بین کرنا، تفتیش کرنا، کے متعلق حقائق جاننے کی کوشش کرنا۔ : دیکھ بھال کرنا، دشمن کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے جانا ــــ ہ: کوئی چیز سائنس کے اصولوں کے مطابق دریافت کرنا ــ ہ: کا پتہ لگانا، کی نشاندہی کرنا، کو ڈھونڈ لینا۔ کَشْف: بے نقابی، دریافت، بے حجاب کرنا۔ بے نقاب کرنا، پردہ دری، اظہار، انکشاف، تجلی، جلوہ، تحقیق، تفتیش، تلاش، جستجو، دیکھ بھال، مطالعہ، جانچ پڑتال، جائزہ، معائنہ، بوائے سکاؤٹ تحریک ــ جمع کُشُوف و کُشُوفات: رپورٹ، سرگزشت، بیان، تفصیل، خلاصہ تحریر، مجمل بیان، فہرست، فرد، جدول، نقشہ، گوشوارہ، چارٹ، نظام الاوقات، رجسٹر، جمع کشوف: انکشافات، دریافتیں۔کشف طبی: طبی معائنہ۔کشف الاقتراع: رجسٹر حاضری کشف الحساب: بجک (فہرست اشیاء مع قیمت) کَشْفِی: بوائے سکاؤٹوں کا یا ان کے متعلق حرکة کشفیة: بوائے سکاؤٹ تحریک۔کَشَّاف جمع کَشَّافة: دریافت کنندہ، انکشاف کرنے والا، معلوم کرنے والا، اختراع کرنے والا، موجد، غیر معلوم علاقہ کی سیاحت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، سکاؤٹ، بوائے سکاؤٹ۔کَشَّاف کَهْرَبَائی: سرچ لائٹ مِصباح کَشَّاف و نور کشاف جمع نوار کشافة: سرچ لائٹ۔کشافة: غیر معروف علاقوں کی سیاحت۔(دشمن علاقوں کی) دیکھ بھال، بوائے سکاؤٹ تحریک، دشمن کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے جانا۔کِشَافی: بوائے سکاؤٹ کی۔کَشِیف: کھلا، بے نقاب، بے پوشش۔اِکتشاف: دریافت، گرفت، انکشاف، محل وقوع، جمع کتشافات: (سائنسی) دریافت ۔طائِرَۃُ الاستکشاف: دیکھ بھال والا طیارہ۔لاستکشاف البعید المَدَی: دور تک دیکھ بھال۔اِستِکْشَافِی: غیر معروف علاقہ کی سیاحت کا یا اس سیاحت کے متعلق، دریافت کا، دریافت کے متعلق، دیکھ بھال کا، دیکھ بھال کے متعلق، مخبر یا نگران کا، مخبر یا نگران جہاز کا۔کاشِف جمع کَشَفَة: بے نقاب کرنے والا، ظاہر کرنے والا وغیرہ، غیر معلوم علاقہ کی سیاحت کے مقاصد کا حامی۔ دیکھ بھال کا ذریعہ دریافت کا باعث، پتہ لگانے کا باعث، پوشیدہ چیز کو منظر عام پر لانے والا۔ممتحن، جانچ پڑتال کرنے والا۔تحقیقات کرنے والا، دریافت کرنے والا، نگران، معائنہ کنندہ، انسپکٹر، کسی علاقہ کا سربراہ، ڈسٹرکٹ چیف، ڈیٹکٹر (ریڈیو)۔کاشِف و کاشفة: جوہر یا مادہ جو دوسرے جوہر یا مادہ کے وجود کا پتہ لگانے کے لئے کیمیائی ردعمل پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ضَوءٌ کاشفٌ جمع ضواء کاشِفۃ اونورٌ کاشِف جمع نُوارٌ کاشِفة: سرچ لائٹ۔زورقٌ کاشِفُ الالغام: سرنگوں کی جگہوں کی دریافت کا جہاز، سرنگیں ہٹانے یا صاف کرنے کا جہاز۔

○ کَاشِف بَلُّورِی: کرسٹل ڈیٹکٹر (ریڈیو)۔کاشِفُ المُحِیط: بالابین (Pcriscope)۔بَانَ بالکاشِف: خودکو آشکارا کرنا (واضح طور پر اور کسی غلطی کے بغیر)۔مَکشوف: ننگا کیا ہوا، کھول کر ڈالا ہوا، بے ڈھکا، کھلا، بے چھت، بے پوشش، بے نقاب عریاں۔کھلا، کسی دفاع کے بغیر فوجی تنصیبات یا قلعہ (مورچہ) بندیوں سے خالی (علاقہ) (عسکری اصطلاح میں) کافی رقم کے بغیر۔مَکْشُوف الرأس: بغیر ٹوپی ننگے سر۔بالمکشوف یاعلی المکشوف: کھلم کھلا، بر سر عام۔علی الاعلان: سب کے سامنے (دکھائی دینے والا)۔مُکتَشِف: دریافت کنندہ۔غیر معروف علاقوں کی سیاحت کرنے والا، انکشاف کرنے والا۔مُکتَشَفَات: (سائنسی)، دریافتیں، انکشافات۔

کشك: ا۔الکَشْكُ: آب جو (فارسیہ)۔الکِشْكُ (ط): ایک قسم کا کھانا جو موٹے ستو کو دودھ میں بھگوکر خمیر اٹھنے

کے بعد پکایا جاتا ہے۔ (ب) گنبد دار محل (فارسیہ)

۲۔ الکَشْکُوْل و الکَشْکُوْلَۃُ: بھکاریوں کا برتن جس میں وہ اپنی مانگی ہوئی چیزیں ڈالتے ہیں (یہ دونوں لفظ آرامی لغت کے ہیں) بہاؤالدین عاملی کی ایک کتاب کا نام کشکول ہے کیونکہ اس میں مختلف موضوع پر مضامین ہیں۔

◌ کُشْک جمع أکشاک: (اخبار فروشوں وغیرہ کا) کھوکھا، (باغ میں بنی ہوئی) چھوٹی جھونپڑی، کھیل کے میدان کا بنگلہ، لکڑی کا کیبن، کیبن، جھونپڑی، شیڈ، ٹیلیفون بوتھ (فون گاہ) سٹال، سٹینڈ (کسی میلہ وغیرہ میں) عارضی دوکان۔ کشکُ الاستحمام: غسل خانہ، ساحلی بنچ، کُشکُ الاشارات: سگنل خانہ (ریلوے سٹیشن سے فاصلہ پر بنی ہوئی عمارت جہاں سے سگنل اوپر نیچے کئے جاتے ہیں اور پٹری بدلی جاتی ہے) کشک الدیدبان: سنتری خانہ۔ کُشک مُحوِّل: ٹرانسفارمر گاہ۔ کِشکُ الماز: موصلی سفید، مارچوبہ، ناگ دون۔

◌ کَشْکَش: سرسر کرنا، سرسرانا، بھاگ جانا، فرار ہوجانا، چنٹ ڈالنا، چوٹی گوندھنا۔ کَشْکَش جمع کَشاکِش: سیون، ٹانکا، سنجاف، مغزی، کوٹ، جھالر، حاشیہ، کنارہ دوایۃ کِشکِشِیَۃ: ہنسی کی نقل، عام پسند سوانگ۔ کشکول: بھکاری کا تھیلا، اخبار یا کتاب کے تراشوں کا مجموعہ، البم۔ کشمش: کشمش، مویز، منقی، مُنَقّٰی۔

◌ کَشْمِیر: کشمیر (پاکستان کے شمال میں واقع ایک ریاست) اب اس کے دو حصے ہیں: ایک آزاد کشمیر، دوسرا مقبوضہ کشمیر کہلاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے قبضہ میں ہے۔ کشمیرا: نرم اونی کپڑا۔

کشم: ۱۔ کَشَمَ ـِ کَشْمًا القثاءَ او الجزرَ: ککڑی یا گاجر بہت حرص سے کھانا۔ کَشِمَ ـَ کَشَمًا: پیدائشی یا خاندانی عیب دار ہونا صفت اَکْشَمُ، الکُشْمُ (ح): تیندوا۔ اَنفٌ کَشِمٌ: جڑ سے کٹی ہوئی ناک۔ الاَکْشَمُ: تیندوا۔ انفٌ اَکْشَمُ: جڑ سے کٹی ہوئی ناک۔

۲۔ کَشْمَرَ: رونے کے لئے آمادہ ہونا۔ ــ انفہ: کی ناک توڑ دینا۔

۳۔ الکِشْمِشُ و الحَبَّۃُ منہ، کِشْمِشَۃٌ (ن): کشمش، کشمش پودے کا اصلی گہوارہ یورپ اور شمالی ایشیا ہے یہ درخت پر گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے سفید یا سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے انگور کی مانند خوشے ہوتے ہیں اس کا پھل بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اور یہ مختلف قسم کے مربہ جات میں استعمال ہوتا ہے۔

◌ کَشْنٰی: پتلے پھلی دار پودے جو چارے کے کام آتے ہیں، ایک قسم کا خودرو چارہ۔

کشو: کَشَا یَکْشُوْ کَشْوًا ہُ: کو دانتوں سے کاٹ کھانا۔

کشی: الکُشْیَۃُ ج کُشًی: گوہ کے پیٹ کی چربی یا اس کی دم کی جڑ۔

کص: ۱۔ کَصَّ ـِ کَصًّا القومُ: اکٹھا ہونا۔ ـ کَصِیصًا الماءُ بالناس: پانی پر لوگوں کی بہت بھیڑ ہونا۔ تَکَاصَّ واکْتَصَّ القومُ: اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا۔ الکَصِیصَۃُ ج کَصَائِصُ: جماعت۔

۲۔ کَصَّ ـِ کَصًّا و کَصِیصًا الصوتُ: آواز باریک ہونا۔ الکَصِیصُ: ٹڈی کی آواز۔

۳۔ اَکَصَّ: بھاگنا اور شکست کھانا۔ الکَصِیصُ: خوف، تنگی، اضطراب، شدت مشقت کی وجہ سے پیچ وتاب، مکروہ۔ ناپسندیدہ۔

۴۔ الکَصِیصُ: پستہ قد موٹا نرم (پلپلا) مرد۔ الکَصِیصَۃُ ـ کَصَائِصُ: ہرن کو شکار کے لئے پھنسانے کا پھندا۔

۵۔ کَصْکَصَ: تیز چلنا۔

کصم: کَصَمَ ـِ کُصُوْمًا: پشت پھیرنا، پیٹھ دکھانا۔ ــ کَصْمًا: دانتوں سے کاٹنا۔ الرجُلَ: کو سختی سے ہٹانا۔

کصی: کَصِیَ یَکْصِیُ کَصًا: بلند مرتبہ کے بعد گھٹیا ہوجانا۔

◌ کَضَّ: (کظ)۔ تَکَضْکَضَ: لبریز ہونا، بھرا ہونا، منہ تک بھرا ہوا ہونا، زیادہ بوجھ لدا ہوا ہونا۔ اِکْتَضَّ ب: سے لبریز ہونا، بھرا ہوا ہونا، منہ تک بھرا ہوا ہونا۔ ـ: موہنا منہ بھرا ہوا ہونا۔ تکضکض: بہت زیادہ زور، حد سے زیادہ محنت، حد سے زیادہ زیر باری۔

کضل: کَضَلَ ـُ کُضُلَاۃً ہٗ: کو ہٹانا۔

کظ: ۱۔ کَظَّ ـُ کَظًّا الطعامُ فلانًا: کو کھانے کا زیادہ بھرنے سے سانس نہ لینے دینا۔ ــ الغیظُ صدرَہٗ: سخت غضبناک ہونا۔ ــ الحبلَ: رسی باندھنا۔ ــ خصمَہٗ: کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔

ــ کَظَاظًا و کَظَاظَۃً المسیلُ بالماء: پانی کی زیادتی سے بہاؤ کی جگہ کا تنگ ہونا۔ ــ الامرُ فلانًا: کو غمگین کرنا، کرب میں مبتلا کرنا، بوجھل کرنا۔ کَاظَّ کِظَاظًا و مُکَاظَّۃً ہٗ: سے جنگ میں سخت جم کر مقابلہ کرنا۔ تَکَاظَّ القومُ: میدان جنگ کو تنگ کرنا، دشمنی میں حد سے گزرنا۔ اِکْتَظَّ مِن الطعام: سانس نہ لینے کی حد تک کھانا بھر لینا۔ المسیلُ بالماء: پانی کی زیادتی سے بہاؤ کی جگہ کا تنگ ہونا۔ المحلُّ: لوگوں سے بھر جانا۔ ــ ہُ الغیظُ: کے سینہ کا غصے سے بھر جانا۔ الکُظُّ (مص): بہت زیادہ غضبناک، وہ شخص جس کو امور گرانبار کردیں اور وہ عاجز ہوجائے کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ کَظٌّ: سخت گیر مرد۔ الکِظَّۃُ: بدہضمی، زیادہ پیٹ بھر جانے کی تکلیف۔ الکِظَاظُ (مص): غم جو دل کو بھر دے، تھکن، سختی۔ الکَظِیظُ: شکم سیر، بہت زیادہ غضبناک، وہ شخص جس کو امور گرانبار کردیں حتی کہ وہ ان سے عاجز آجائے، بھیڑ، کہا جاتا ہے۔ علٰی باب فُلَانٍ کَظِیْظٌ: فلاں کے دروازے پر رش ہے۔ المَکْظُوْظُ: کھانے سے بھرا ہوا۔ ــ و المُکَظَّظُ: وہ شخص جس کو امور گرانبار کردیں حتی کہ وہ ان سے عاجز آجائے۔ بہت زیادہ غضبناک۔ طَعَامٌ مُکَظَّۃٌ: بدہضمی والا کھانا۔

۲۔ کَظْکَظَ کَظْکَظَۃً السقاءُ: جیوں جیوں پانی ڈالا جائے مشک کا پھیلتا جانا۔ فلان یَتَکَظْکَظُ عِندَ الأکلِ: فلاں شخص کا جیسے جیسے پیٹ بھرتا جاتا ہے وہ سیدھا بیٹھتا جاتا ہے۔

کظب: کَظَبَ ـُ کُظُوْبًا: بہت موٹا ہونا۔

◌ کَظَّ ـُ کَظًّا ہ: کو بھرنا، لبریز کرنا۔ ــ ہ: پر بوجھ ڈالنا، کے ساتھ وزن باندھنا، کو زیر بار کرنا۔ ــ ہ: پیٹ میں بہت زیادہ کھانا بھرنا۔ اِکْتَظَّ ب: (لوگوں سے) بہت بھیڑ والا ہونا، ٹھنسا ہوا ہونا، کھچاکھچ بھرنا۔ ـ: منہ تک کھانا، جی بھر کر کھانا، سیر ہو کر کھانا۔ ب: کو حد سے زیادہ کھایا ہوا ہونا: بافراط ہونا، وافر ہونا، بہت ہونا۔ کِظَّۃ: پیٹ میں ٹھونسا ٹھونسی حد سے زیادہ سیری۔ کَظِیظ: منہ تک بھرا ہوا۔ مُکْتَظّ ب: سے ٹھنسا ہوا، کھچا کچھ بھرا ہوا، موہنا منہ بھرا ہوا۔

کظر: کَظَرَ ـُ کَظْرًا القوسَ: کمان کے کنارے پر تانت لگانے کے لئے دندانہ بنانا۔ الزندۃَ: چقماق میں دندانہ بنانا۔ الکُظْرُ: کمان کے کناروں پر تانت کا حلقہ لگانے کی جگہ۔

۲۔ الکُظْرُ: گردوں کی چربی و الکُظْرَۃُ: گردوں پر چربی کی جگہ جبکہ گردے نکال لئے جائیں۔ الکِظْرُ: ہنسلی کی ہڈی کے درمیان کی جگہ۔

◌ کُظْر: پیٹھ کی چربی۔

کظم: کَظَمَ ـِ کَظْمًا و کُظُوْمًا غیظَہٗ: غصہ نگل جانا۔ ــ کُظُوْمًا البعیرُ: اونٹ کا جگالی کرنے سے باز رہنا کہا جاتا ہے۔ ما کَظَمَ فُلَانٌ عَلٰی جِرَّتِہٖ: یعنی فلاں کے پیٹ میں بات ٹھہرتی نہیں۔ ــ کَظْمًا

الشیئَ و علی الشیئ: کو روکنا۔ البابَ: دروازہ بند کرنا ـــــ النھرَ: نہر پر بند باندھنا۔ القربةَ: مشک بھرنا اور منہ باندھنا ـــــ البعیرَ بالکِظامة: اونٹ کو نکیل لگانا۔ کَظِمَ کُظُومًا: خاموش رہنا۔ الکَاظِمُ (فا) ج کُظَّمٌ: خاموش۔ بعیرٌ کاظِمٌ: پیاسا اونٹ۔ الکَظَمُ ج اَکْظَامٌ و کِظَامٌ: سانس کی نالی، کہا جاتا ہے۔ اَخَذَ بِکَظْمِہ: یعنی اس کو غم میں مبتلا کر دیا۔ الکِظَامُ: بند کرنے کی چیز کہا جاتا ہے۔ اَخَذَ بِکِظَامِ الْاَمْرِ: یعنی اس نے بھروسہ کے لائق چیز کو اختیار کیا۔ الکِظَامَةُ ج کَظَائِمُ: زمین کے اندر پانی کی نالی، دو قریب قریب کنوؤں کے درمیان زیر زمین نالی۔ وادی کا دھانہ، اونٹ کی نکیل، ترازو کی رسیوں کا حلقہ، کہا جاتا ہے۔ عقد الخیوطَ فِیْ کِظامَتِي المیزان: یعنی اس نے ترازو کی ڈنڈی کے دونوں حلقوں میں دھاگے باندھ دیئے۔ کِظامةُ البَاب: دروازہ بند کرنے کی چیز۔ اِبلٌ کُظُومٌ: اونٹ جو جگالی نہ کرے۔ الکَظِیمُ: دروازہ بند کرنے کی چیز ـــــ والمَکْظُومُ: مصیبت زدہ۔ الکَظِیمَةُ ج کَظَائِمُ: توشہ دان، دو قریب قریب کنوؤں کے درمیان کی زیر زمین نالی۔

◌ کَظَمَ غَیظَہٗ: اپنا غصہ چھپانا، دبانا ـــ: خاموش رہنا، گم سم بیٹھے رہنا۔ کَظِیم: غصہ سے بھرا ہوا۔

کظو: کَظَا یَکْظُو کَظْوًا لحمُہٗ: کا گوشت سخت ہونا۔ تَکَظّٰی لَحْمُہٗ سِمَنًا: موٹائی کی وجہ سے گوشت کا بلند ہونا۔ اَرْضٌ کَاظِیَةٌ: خشک زمین۔

کعّ: ۱۔ کَعَّ یَکِعُّ کَعًّا و کُعُوْعًا و کَعَاعَةً و کَیْعُوْعَةً: کمزور ہونا، بزدل ہونا۔ اَکَعَّ فلانًا: کو خوف دلانا۔ بزدل بنانا ـــ الخوفُ فلانًا: کو اس کے ارادہ سے باز رکھنا ـــ فی کلامِہ: کلام میں رکنا۔ الکَاعّ: کمزور، بزدل۔ الکُعّ: کمزور، بزدل کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ کَعُّ الْوَجْهِ: فلاں سبک رخسار ہے۔

۲۔ کَعْکَعَ کَعْکَعَةً الرجلَ: کو اس کے ارادہ سے باز رکھنا ـــ ہٗ عن کذا: کو سے پھیر دینا۔ فی کلامہ: کلام میں رکنا۔ تَکَعْکَعَ: ارادے سے باز آ جانا۔ بزدل ہونا۔ الکُعْکُعُ: بزدل، کمزور۔

کعب: ۱۔ کَعَبَ یَکْعُبُ کُعُوْبًا و کُعُوْبَةً و کِعَابَةً تِ الجاریةُ: لڑکی کا ابھری ہوئی پستان والی ہونا۔ صفت کِعَابٌ و کَاعِبٌ۔ کَعَبَ۔ کُعُوْبًا الثدیُ: پستان ابھرنا۔ کَعَّبَ تِ الجاریةُ: لڑکی کا ابھری ہوئی پستان والی ہونا ـــ الشیئَ: کو مکعب بنانا۔ الکَاعِبُ ج کَوَاعِبُ من الجواری و الثُدِیّ: ابھری ہوئی پستان والی لڑکی یا ابھری ہوئی پستان۔ الکَعْبُ ج کِعَابٌ و کُعُوْبٌ و اَکْعُبٌ: ہڈیوں کا جوڑ، قدم کے اوپر ابھری ہوئی ہڈی، ٹخنے ـــــ ج کُعُوْبٌ: دو پوروں کے درمیان کی گرہ، نیزہ کی گرہ، ہر بلند و مرتفع چیز، بزرگی و شرافت کہا جاتا ہے۔ اَعْلَى اللّٰهُ کَعْبَهُمْ: اللہ ان کی شان کو بلند کرے اور کہا جاتا ہے۔ ذَهَبَ کَعْبُهُمْ: ان کی عزت تباہ ہو گئی، اور کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ عَالِی الکَعْب: بڑی بزرگی والا مرد ـــــ ج کُعُبٌ و کِعَابٌ (ہ): نرد کا مہرہ، وہ مجسم جس کی چھ پہلو ہوں جو کہ لمبائی چوڑائی موٹائی سب میں برابر ہوں۔ کعبُ عددٍ مَا ج کِعَاب (ع ح): ایک عدد کے لئے تین اعداد کا مساوی حاصل ضرب جیسے کعب ۶۶ × ۶ × ۶ = ۲۱۶ کا۔ الکُعْبُ: ابھری ہوئی پستان۔ الکُعْبَةُ: دوشیزگی۔ الکَعْبَةُ ج کِعَابٌ و کَعَبَاتٌ: نرد کا مہرہ، ہر چوکور مکان، جھروکہ، بیت اللہ الحرام، کیونکہ یہ مربع شکل کی عمارت ہے۔ الکِعَابُ واحد کَعْبٌ و کَعْبَةٌ: نرد کے مہرے۔ جَارِیَةٌ کَعَابٌ و مُکَعِّبٌ: ابھری ہوئی پستان والی لڑکی، کہا جاتا ہے۔ وَجْهٌ مُکَعِّبٌ: چہرہ جب وہ خشک اور ابھرا ہوا ہو۔ تَکْعِیْبُ عددٍ ما (ع ح): ایک ایسا عدد جو تین مساوی عددوں کا حاصل ضرب ہو جیسے کعب ۶، ۶ × ۶ × ۶ = ۲۱۶ کا ہے۔ المُکَعَّبُ (ہ): وہ جسم جس کی چھ سطحیں ہوں اور لمبائی چوڑائی موٹائی میں برابر ہوں، یعنی مُکَعَّب اور مکعب شکل کا۔ مُکَعَّبُ العدد (ع ح): چوگنے کا حاصل ضرب جیسے آٹھ دو کا مکعب ہے۔ ثَدْیٌ مُکَعَّبٌ: ابھری ہوئی پستان (یہ نادر ہے)

۲۔ کَعَبَ۔ کَعْبًا الاناءَ: برتن بھرنا۔ کَعَّبَ الاناءَ: برتن بھرنا۔ الکَعْبُ ج کُعُبٌ و کِعَابٌ: گھی کا ٹکڑا، برتن کا باقی ماندہ دودھ۔

۳۔ کَعَبَ۔ کَعْبًا فلانًا: خشک چیز مثلاً سر وغیرہ پر مارنا۔

۴۔ اَکْعَبَ: دوڑنا۔

۵۔ کَعْبَرَ کَعْبَرَةً ہٗ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا، ٹکڑے کرنا۔ الکُعْبُرُ من العسل: شہد جو چھتہ میں جمع ہو۔ الکُعْبُرَةُ ج کَعَابِرُ: ہر جمع شدہ چیز، گوشت کا ٹکڑا، سخت گرہ دار ہڈی، سر کی جڑ، موٹا سرین، بند دست، گندم کا کوڑا کرکٹ جو صاف کرتے وقت پھینک دیا جائے، پاخانہ جو اونٹ کی دم پر خشک ہو جائے۔ کُعْبُرَةُ الکَتِفِ: کندھے کا گول حصہ۔ کُعْبُرَةُ الوَظِیف: پنڈلی کے نچلے حصہ کے ملنے کی جگہ۔ الکَعَابِرُ: ہڈیوں کے سرے۔ الکُعْبُرَةُ (مص) من النساء: مجمی اکھڑ عورت۔ الکُعْبُورَةُ ج کَعَابِیْرُ: گرہ، جمع شدہ، غلہ میں سے جو پھینک دیا جائے۔

◌ کَعَّبَ ہ: کو مکعب بنانا، شش پہلو بنانا ـــ ہ: کسی عدد کو اس سے دو دفعہ ضرب دینا جیسے 10 کو 10 سے دو بار ضرب دیا جائے تو وہ 1000 بن جاتا ہے۔ کَعْب جمع کِعَاب و کُعُوب: چھڑی وغیرہ کی گرہ، گرہ، جوڑ، ٹخنہ، گٹا، ٹخنے کی ہڈی، ایڑی (پاؤں، جوتے کی) چھلا، شام (لکڑی کی چھڑی کا)، پانسہ، مکعب، مسدس، اعلیٰ رتبہ، شہرت، عظمت، عزت، وقار، کعب الکتاب: کتاب کی جلد کا وہ حصہ جس پر کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے اور الماری میں قطار میں رکھی ہو تو نظر آتا ہے۔ اَرْقٰی کَعْبًا: زیادہ قابل، زیادہ لائق، زیادہ اہل، زیادہ لیاقت کا حامل۔ رَجُلٌ عالی الکعب: ممتاز، لائق، کامیاب آدمی۔ عُلُوُّ الکعب: بلند رتبہ، نمایاں حیثیت۔ ذَهَبَ کَعْبُهم: ان کی عظمت کے ایام جاتے رہے۔ کُعْب: پستان، سینہ۔ کَعْبَة: مسدس، مکعب، مکعب چیز۔ الکَعْبَة: مکہ کا کعبہ، (مجازاً) مزار، روضہ، اجلال و احترام کی چیز، مرکز دلچسپی۔ کَعْبِی: مکعب، مکعبی، مکعبی۔ کُعْبَة: کنوارپن، دوشیزگی، پاکدامنی۔ کَعَاب: ابھرے ہوئے پستانوں والی، گداز جسم کی صحت مند (لڑکی) ابو کُعَیب: گلسوائے، گلپھڑے، کنپھیر۔ تَکْعِیبَة: جعفری، درخت یا بیل جس کی شاخیں لکڑی یا تاروں کے ڈھانچہ پر چڑھائی جاتی ہیں۔ تکعیبی: مکعب، مکعبی، کعبی۔ کَاعِب جمع کَوَاعِب: مکمل اور گول ابھری ہوئی چھاتی، ابھرے ہوئے پستان والی، گداز جسم کی صحتمند (لڑکی) کواعِب: گداز جسم صحتمند قبول صورت لڑکیاں۔ مُکَعَّب: مکعب، کعبی، مکعب جمع مُکَعَّبات: مکعب، مسدس۔ قدمٌ مُکَعَّب: مکعب فٹ۔ متر مکعب: مکعب میٹر۔

◌ کُعْبَرَة و کُعْبُورَة جمع کَعَابِر: گرہ دار یا پیچیدہ دنبل، پھنسی پھوڑا، رسولی، گرہ، گانٹھ، گومڑہ۔ کُعْبُرَة: کہنی سے نیچے ہاتھ کی ہڈی۔ عظم الکعبرة: کہنی سے نیچے ہاتھ کی ہڈی۔ مُکَعْبَر: گرہ دار، گانٹھ دار، ناہموار، بل دار، گرہیں پڑا ہوا، پیچ دار۔

◌ کَعْبَلَ ہ: کو اڑنگا لگانا، ٹھوکر لگوانا۔

◌ کَعْك واحد کَعْکَة: کیک، مختلف قسم کی پیسٹریوں کا نام۔

کعت: ۱۔ کَعَتَ الرجُلُ: تیز چلنا، غصہ سے پھولنا، بیٹھنا۔ الکَعْتُ م کَعْتَةٌ: پستہ قد مرد۔ الکَعْتَةُ: شیشی کا سر بند۔

۲۔ کَعْتَرَ: تیز چلنا، تیز دوڑنا۔ فی مشیہ: مستانہ چال چلنا، چلنے میں لڑکھڑانا۔ الکُعْتُرُ (ح): چڑیا کی مانند ایک پرندہ۔

کعر: ۱۔ کَعِرَ ــَ کَعَرًا الصبیُّ: پرشکم اور موٹا ہونا۔ صفت کَعِرٌ ــ البطنُ: پیٹ بھرنا، موٹا ہونا۔ ــ و کَعَّرَ و اَکْعَرَ البعیرُ: اونٹ کا کوہان میں گرہ دار چربی والا ہونا۔ الکُعَرُ کوہان۔ الکُعْرَۃُ غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔

۲۔ کَعَرَ ــَ کَعْرًا ہٗ فی اصطلاح العامۃ: کو شدید جھڑکنا، ملامت کرنا۔

کعز: کَعَزَ (ــَ) کَعْزًا: انگلیوں سے چیز جمع کرنا۔

کعس: ۱۔ کَعْسَبَ کَعْسَبَۃً الرجُلُ: دوڑنا، بھاگنا، تیز چلنا یا مستانہ چال چلنا۔

۲۔ کَعْسَمَ کَعْسَمَۃً: پیٹھ دے کر بھاگنا۔ الکُعْسُمُ ج کَعَاسِمُ و کَعَاسِیمُ (ح): جنگلی گدھا، گورخر۔

کعط: کَعْطَلَ کَعْطَلَۃً: تیز دوڑنا۔ بیدہ: انگڑائی لینے میں ہاتھ پھیلانا۔

کعک: الکَعْکُ واحد کَعْکَۃٌ ج کَعْکَاتٌ (ط): کیک (فارسیہ)

کعل: تَکَعْکَلَ التمرُ ونحوُہٗ: کھجوروں وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھا ہوا ہونا۔ الکَعَلُ: بخیل مالدار۔ ــ والکُعَّلُ: کالا پستہ قد مرد۔ المُکَعْکَلُ: غصے سے پھولا ہوا۔

کعم: کَعَمَ ــَ کَعْمًا الوعاءَ: برتن کا منہ باندھنا۔ ــ البعیرَ: اونٹ کو تھوتھنی لگانا۔ ــ الخوفُ فلانًا: کو ہٹانا۔ ــ ہٗ عندالعامۃ: دھکیلنے پر ہٹ جانا۔ الکِعْمُ ج کِعَامٌ: ہتھیار کا کیس وغیرہ۔ الکِعَامُ ج کُعُمٌ و الکِعَامَۃُ: تھوتھنی جس سے اونٹ کے منہ کو باندھتے ہیں تاکہ کھا اور کاٹ نہ سکے۔ کُعُومُ الطَّرِیْقِ: راستہ کے دہانے۔ بَعِیْرٌ کَعِیْمٌ: تھوتھنی چڑھایا ہوا اونٹ۔

کعن: ۱۔ اَکْعَنَ الرجُلُ: بست ہونا، کی نشاط میں کمی ہونا۔

۲۔ تَکَعْنَشَ الطائرُ: پرندے کا جال میں پھنسنا۔ ــ فلان فی الشیئِ: میں مستغرق ہونا۔

کعو: کَعَا یَکْعُو کَعْوًا: بزدل ہونا۔ کَعِیَ یَکْعَی کَعْیًا عنہ: کوشش کے بعد سے عاجز آجانا (عامیہ) کَعَّی غیرَہٗ: کو عاجز کر دینا (عامیہ) الکَاعِیْ (فا): شکست خوردہ۔ الاَکْعَاءُ: بزدل لوگ۔ الکَعْوَۃُ: جس کے ساتھ عاجز کیا جائے (عامیہ)

کغد: الکَاغِدُ و الکَاغَدُ: کاغذ (فارسیہ)

الکَاغِدِیُّ: کاغذ بیچنے والا۔

(ح) کغم: کیلوغرام کا مخفف، بمعنی کلوگرام۔

کف: ۱۔ کَفَّ ــُ کَفًّا و کِفَافَۃَ الثوبَ: کپڑے پر گوٹ لگانا، حاشیہ لگانا، کنارے ترپنا۔ کَفَّ ــُ کَفًّا الشیئَ: کو جمع کرنا۔ ــ رجلَہٗ: پاؤں میں چیتھڑا لپیٹنا۔ ــ ماءَ وجھِہٖ: کی آبرو بچانا اور سوال کرنے سے روکنا۔ ــ القبیلۃُ: قبیلہ کے ایک گوشہ کو اختیار کرنا۔ ــ الاناءَ: برتن کو بہت بھرنا۔ ــ ہٗ عن الامر: کو سے باز رکھنا۔ ــ عن الامر: سے باز رہنا۔ ــ بصرُہٗ: اندھا ہونا۔ ــ کُفُوْفَاتُ النَّاقَۃُ: اونٹنی کا بوڑھی ہونے کی وجہ سے چھوٹے دانت والی ہونا۔ کُفَّ بَصَرُہٗ: اندھا ہونا۔ تَکَفَّفَ النَّاسَ: لوگوں سے مانگنے کیلئے ہاتھ پھیلانا۔ ــ الرجُلُ: چیز کو ہاتھ میں لینا یا مٹھی بھر کھانا مانگنا۔ یا بھوک دور کرنے کے جتنا مانگنا۔ ــ دَمْعَۃٗ: کے آنسو کا رکنا۔ ــ عن الامر: کو چھوڑنا۔ تکافَّ القومُ: ایک دوسرے کو روکنا۔ ــ عن الامر: سے باز رہنا۔ اِنْکَفَّ: باز رہنا۔ ــ عن المکان: جگہ چھوڑنا۔ اِسْتَکَفَّ الشَّعْرُ: بال بکثرت ہونا۔ ــ الشیئَ: کو ہاتھ میں لینا۔ ــ الناسَ: مانگنے کیلئے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ ــ عینہٗ: دیکھنے کے لئے آنکھ پر ہاتھ کا سایہ کرنا۔ ــ الناظرُ: دیکھنے والے کا دھوپ سے بچنے والے کی طرح بھوؤں پر ہاتھ رکھنا۔ ــ ت عینُہٗ: آنکھ کا ہاتھ کے نیچے سے دیکھنا۔ ــ الشیئُ: گول ہونا۔ ــ ت الحیَّۃُ: کنڈلی مارنا (چکی کی طرح)۔ ــ بہ الناسُ: کا احاطہ کرنا۔ ــ الناسُ حولَہٗ: کو گھیرے میں لے کر دیکھنا۔ ــ فلانٌ بالصدقۃ: صدقہ مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ ــ ہٗ عن الشیئِ: کو سے رکنے کے لئے کہنا۔ الکَافُّ (فا) ج کَفَفَۃٌ رَجُلٌ کَافٌّ: اپنے نفس کو روکنے والا مرد۔ نَاقَۃٌ کَافٌّ: بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھسے ہوئے دانت والی اونٹنی۔ الکَافَّۃُ کَافٌّ کا مونث: جماعت کہا جاتا ہے۔ جَاءَ النَّاسُ کَافَّۃً: یعنی سب لوگ آئے۔ اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کی اضافت بھی نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ حال ہونے کی بناء پر منصوب رہتا ہے)۔ بوڑھی اونٹنی۔ الکَفُّ (مص) ج اَکُفٌّ و کُفُوْفٌ و کُفٌّ (ع ا): ہاتھ یا ہتھیلی انگلیوں سمیت (مونث) نعمت۔ ــ عند العروضیین: ساتویں حرف ساکن کا حذف کر دینا جیسے فَاعِلَاتُنْ کا نون گر گیا تو فَاعِلَاتُ ہو گیا۔ اور مَفَاعِیْلُنْ کا نون گرا تو مَفَاعِیْلُ ہو گیا۔ کَفُّ السَّبُعِ و الکَلْبِ و الذِّئْبِ و مَرْیَمَ و اٰدَمَ و غیرھا (ن) نباتات کی قسمیں ہیں۔ الکَفَّۃُ: کف کا اسم مرہ۔ کِفَّۃُ المِیْزَانِ: ترازو کا پلڑا، کہا جاتا ہے۔ لَقِیْتُہٗ کَفَّۃَ کَفَّۃَ مبنی بر فتح۔ و کَفَّۃً لِکَفَّۃٍ و کَفَّۃً عَنْ کَفَّۃٍ یعنی میں اس سے رو در رو ملا۔ الکُفَّۃُ ج کُفَفٌ و کِفَافٌ: گوٹ حاشیہ، چیز کا کنارا۔ ــ من الشجر: درختوں کی انتہائی حد۔ ــ من الناس: لوگوں کی جماعت، نزدیک جگہ والے۔ ــ من اللیل: دن رات ملنے کی جگہ یا مشرق میں یا مغرب میں۔ ــ من الثوب: کپڑے کے اوپر کی دھاری جس میں چھورنہ ہو۔ ــ من الغیم: بادل کا لمبا ٹکڑا۔ ــ من اللثۃ: مسوڑھے کا لٹکا ہوا حصہ۔ ــ من الدرع: زرہ کا دامن ــ من الرمل: ریت کا ٹیلہ جو لمبا اور گول ہو۔ کُفَّۃُ القَمِیْصِ: دامن کے ارد گرد کی گوٹ۔ کُفَّۃُ الصَّائِدِ: شکاری کا جال۔ الکِفَّۃُ ج کِفَفٌ و کِفَافٌ: ہر گول چیز، گڑھا جس میں پانی جمع ہو۔ ــ من الدفّ: ڈھول کا ڈھانچہ۔ ــ من المیزان: ترازو کا پلڑا، کہا جاتا ہے۔ اَلذَّھَبُ بِالذَّھَبِ وَالکِفَّۃُ بِالکِفَّۃِ: یعنی برابر سرابر اور کہا جاتا ہے۔ جِئْتُہٗ فِیْ کِفَّۃِ اللَّیْلِ: میں رات کے ابتدائی حصے میں اس کے پاس آیا۔ کِفَّۃُ الصَّائِدِ: شکاری کا جال۔ الکِفَّۃُ الجَنُوْبِیَّۃُ و الکِفَّۃُ الشَّمَالِیَّۃُ (فلک): دو ستاروں کے نام۔ الکَفَفُ: سوال کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ من الرزق: گزارہ کے لائق روزی۔ ــ فی الوشم: گودنے کے حلقے۔ الکَفَفُ: گڑھے جن میں چشمے ہوں۔ الکَفَافُ من الرزق: گزارہ کیلائق اور لوگوں سے بے نیاز کرنے والی روزی، کہا جاتا ہے۔ قُوْتُہٗ کَفَافُ حَاجَتِہٖ: یعنی اس کا گزارہ بغیر کسی زیادتی کے اس کی حاجت کے مطابق ہے۔ کَفَافُ الشیئِ: چیز کے مانند، ہم مثل کہا جاتا ہے۔ ھُوَ کَفَافُہٗ: وہ اس کا ہم مثل ہم قدر ہے، کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ لَحْمُہٗ کَفَافٌ لِاَدِیْمِہٖ: یعنی فلاں کے بدن کے گوشت سے اس کا چمڑا ابھرا ہوا ہے۔ اور کہا جاتا ہے طَارَ البَرْقُ فِیْ کَفَافِ السَّحَابِ: یعنی بادل کے کناروں میں بجلی کوندی، اور کہا جاتا ہے۔ جِئْتُہٗ فِیْ کَفَافِ اللَّیْلِ: میں اس کے پاس رات کے ابتدائی حصہ میں آیا اور کہا جاتا ہے۔ دَعْنِیْ کَفَافِ: یعنی تو مجھے چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ الکِفَافُ من الشیئِ ج اَکِفَّۃٌ: گھیرا۔ ــ من الثوب: کپڑے کی گوٹ۔ کِفَافُ السَّیْفِ: تلوار کی دھار، کِفَافُ السَّحَابِ: بادل کے کنارے، یا بادل کے نچلے حصے ہر وہ جو کسی چیز کے ملنے کی جگہ ہوتی ہے وہ کفاف ہوتی ہے اس سے کِفَافُ الاُذُنِ: ہے۔ الکَفُوْفُ من النوق: بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھسے ہوئے دانت والی اونٹنی۔ الکَفِیْفُ: اندھا۔ المُکَافَّۃُ: ایک دوسرے کو روکنا۔

المَکْفُوفُ ج مَکَافِیْفُ: اندھا۔ اَلْمُسْتَکِفُّ: گول۔ المُسْتَکِفَّاتُ چشمے۔ اکٹھے اونٹ۔

۲۔ کَفْکَفَ ہٗ عن کذا کو سے پھیرنا اور روکنا۔ —— الدمعَ: آنسو بار بار پونچھنا۔ الرجلَ: قرض دار سے نرمی برتنا یا ایذا دینے والے کو اپنے سے روکنا۔ تکَفْکَفَ عنه: سے پھرنا اور باز رہنا۔

۞ کَفَّ عن: کچھ کرتے رہنے سے احتراز کرنا، کچھ کرتا رہنا ختم کردینا۔ —— مِن: کو حد کے اندر رکھنا، قابو میں رکھنا، کو یکا یک روکنا۔ کَفَّفَ ہٗ: کپڑے کو گوٹ لگانا، کے کنارے ترپنا۔ تَکَفَّفَ: بھیک مانگنا۔ اِنْکَفَّ عن: سے باز رہنا۔ اِسْتَکَفَّ: بھیک مانگنا۔ —— ل/حولِ: کا محاصرہ کرنا، کے گرد گھیرا ڈالنا، کو گھیر لینا، کو گھیرے میں لینا۔ کَفٌّ (مونث) جمع کُفُوف و اَکُفّ: ہتھیلی، دستانہ، (جانور کا) پنجہ، تھپڑ، چپت، طمانچہ، وترازو کا پلڑا، مٹھی بھر، کاغذ کا دستہ، (چاکلیٹ کی) بیخ۔ الکف الجذماء: ستاروں کے جھرمٹ کا ایک ستارہ۔ وَضَعَ حیاته علی کفه: اپنی زندگی کو خطرہ میں ڈالنا۔ اِسْتَدَرَّ الاَکُفَّ: بہت چندے (امداد) حاصل کرنا۔ کَفَّة و کِفَّة جمع کِفَف و کِفَاف: ہتھیلی، ترازو کا پلڑا۔ کَفَّة بارود: کارتوسوں کی تھیلی۔ کُفَّة جمع کُفَف: بارڈر، گوٹ، مغزی، سنجاف، سیون، کنارا۔ کَفَاف: کافی مقدار، روزی کے کافی ذرائع۔ کِفَاف: بارڈر، کنارا، گوٹ، مغزی، سنجاف۔ کِفَافَة: گوٹ لگانا، کنارے ترپنا، گوٹ، مغزی، سنجاف۔ کفیف و کفیف البصر: اندھا۔ کافة: مجموعیت، اتمام، کلیت (اضافی حالت میں) سب، لوگ، عوام۔ کافة: سب بلا استثناء، ہر ایک سب ملا کر، کل، فی الجملہ، مجموعی طور پر، اکٹھا، سب مل کر۔ مَکفُوف: اندھا۔

کفأ: ۱۔ کَفَأَ۔ کَفْأً: پھرنا، شکست کھانا۔ — الرجلَ: کو دھتکارنا۔ — عن القصد: میانہ روی سے تجاوز کرنا۔ و کَفَأَ و اِکْتَفَأَ الاناءَ: برتن کو الٹ دینا، اوندھا کر دینا۔ کَافَأَ فلانًا کا مقابلہ کرنا۔ اَکْفَأَ اِکْفَاءً ا: جھکنا — الاناءَ: برتن کو الٹ دینا۔ — الشاعرُ: بیت کے آخر کو ردی کے بدلنے یا کسی اور طریقے سے خراب کر دینا۔ البیتَ: گھر پر پردہ لگانا۔ تکفأ فی مشیته: لڑکھڑانا۔ فی مشیته: لڑکھڑانا۔ اِکْتَفَأَ الاناءَ: برتن کو جھکانا، پلٹنا۔ — الابلَ: اونٹوں کو لوٹ ڈال کر لے بھاگنا۔ اِنْکَفَأَ القومُ: متفرق ہونا، واپس ہونا، شکست کھانا۔ الی کذا: کی طرف جھکنا۔ — اللونُ: متغیر ہونا۔ اِسْتَکْفَأَ فلانًا: میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے برتن کی چیز کو میرے برتن میں انڈیل دے۔ کِفَاءُ البیت ج اَکْفِئَة خیمہ کے اوپر سے نیچے تک کا پردہ جو آخر میں لگایا جاتا ہے۔ الکَفِیْئُ کہا جاتا ہے۔ هُوَ کَفِیْئُ اللَّوْنِ یعنی اس کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ الاِکْفَاءُ عند الشعراء حرف روی کو بدل بدل کر لانا مثلاً کہیں میم، کہیں دال کہیں نون اور یہ ممنوع ہے کہا جاتا ہے۔ رأیته مکتفئ اللون و مُکفأ اللون: میں نے اس کو متغیر اللون پایا۔

۲۔ کَافَأَ الرجلَ علی ما کان منه کو اس کے کام کا بدلہ دینا۔ — فلانًا کا مقابلہ کرنا، نظیر ہونا، کی برابری کرنا۔ بین الفارسین برمحه: ایک کے بعد دوسرے کو نیزہ مارنا۔ تَکَافَأَ القومُ: ایک دوسرے کے برابر ہونا۔ الکُفُؤُ والکُفْءُ والکِفْءُ ج اَکْفَاءٌ و کِفَاءٌ: مثل و نظیر، کہا جاتا ہے۔ هٰذا کُفُوُہٗ: یہ اس کا ہم مثل ہے۔ الکِفَاءُ مصدر کَافَأَ کہا جاتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کِفَاءَ الْوَاجِبِ: جتنی حمد واجب ہے اس کے برابر اللہ کے لئے حمد ثابت ہے۔ هٰذا کِفَاءُہٗ: یہ اس کے مثل ہے۔ لا کِفَاءَ لَهٗ: اس کی کوئی نظیر نہیں۔ الکَفَاءُ والکَفَاءَةُ: برابری، مساوات کَفَائَة جسم اَوْقِیمَتُہُ الاتحادیة (ک): کسی جسم کی برابری یا اس کی وفاقی قیمت، اس کا قیاس ہیڈروجن کے ذرات کی تعداد سے کیا جاتا ہے جو اس جسم کے ذرہ سے متصل ہوں یا اس کی جگہ لیں۔ آج کل یہ نظریہ شدت سے تبدیل ہو چکا ہے۔ الکُفُوْءُ والکَفُوْءُ والکَفِیْئُ والکَفِیْئَةُ مماثل / التَّکَافُؤُ عند العرب: برابری تکافؤ شکلین مساحةً (او حجمًا) (ھ) قطعی مطابقت کے بغیر دو شکلوں کے رقبہ یا حجم کا یکساں ہونا، جیسے مربع و مستطیل جن کا رقبہ ایک میٹر مربع ہو۔

۳۔ کَافأ فلانًا: پر نظر رکھنا۔

۴۔ اَکْفَأَ اِکْفَاءً تِ الابلُ: اونٹنی کا بہت بچے دینا۔ اِسْتَکْفَأَ فلانًا ابلَهٗ: سے ایک سال کے اونٹوں کی پیدائش مانگنا کہا جاتا ہے۔ اِسْتَکْفَأْتُهٗ اِبلَهٗ فَاَکْفَأَنِیْ فِیْهَا: میں نے اس سے اس کے اونٹوں کی ایک سال کی پیدائش کو مانگا تو اس نے مجھے دودھ، اون، بچے سب دے دیے۔ الکَفْأَة و الکُفْأَة فی الابل: اونٹوں کی ایک سال کی پیدائش یا اس سے زائد کے ناغہ کے بعد کی پیدائش۔ منحتهٗ کفأة غنمی: یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب تم کسی کو ایک سال کیلئے اپنی بکریوں کا دودھ صوف بچے سب دے دو اور سال کے اختتام پر بکریوں کو وہ تمہیں ... دے۔ — من الارض سال بھر کی کھیتی۔ — من النخل: کھجور کے درخت کی ایک سال کی پیداوار۔

۵۔ کِفْءُ الوادی: اندرون وادی۔ الکَفِیْئُ: اندرون وادی۔

۞ کَفَأَ۔ کَفْأً ہ کو الٹ دینا، اوندھا کرنا، — من: سے دور ہونا، ایک طرف ہونا، ہٹنا۔ کَافَأَہٗ: کو انعام دینا۔ — ہ ب کی سے تلافی کرنا، کا سے معاوضہ دینا۔ — ہ: کے مشابہ، مماثل، جیسا، جتنا ہونا، کے برابر ہونا، کا ہم مقدار ہونا، کے حسب حال ہونا، کے مناسب ہونا، کے معیار پر پورا اترنا، کے مقابلہ کا ہونا۔ اَکْفَأَہٗ کو الٹ دینا، اوندھا کر دینا۔ تَکَافَأَ: برابر ہونا، ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہونا، میل کھاتا ہوا ہونا۔ اِنْکَفَأَ: ایک طرف کیا جانا، دور کیا جانا، تبدیل ہونا، (رنگ کا) پھیکا پڑ جانا، پیچھے مڑنا، پسپا ہونا، ٹوٹ جانا، الٹ جانا، اوندھا ہونا، گر جانا، الٹ کر گرنا، ڈگمگا کر گرنا۔ کَفْء و کِفْء و کُفْء جمع اَکْفَاء و کِفَاء: برابر، یکساں، ہم رنگ، ہم شکل، مشابہ۔ —— ل: کے لئے مناسب، موزوں، کافی، کے برابر، کا جوڑ۔ —— مستند، سند یافتہ، اہل، قابل، لائق، مجاز، صاحب اختیار، کارگزار۔ کُفُوء و کُفُوْل: کے برابر کا، کی ٹکر کا، کا ہم رتبہ، ہم پلہ، سے مقابلہ کئے جانے کے قابل۔ کِفَاء ہم قیمت (چیز) کَفَاء: برابری، موزونیت، کفایت، مناسبت، کافی ہونا۔ کَفَاءَة: برابری، موزونیت، مناسبت، کافی ہونا، مقابلہ کئے جانے کی قابلیت، قابلیت، صلاحیت، استعداد، جمع کَفَاءات: علمیت، اہلیت، استعداد، امکانات۔ مُکَافَأَة جمع مکافات: بدلہ، تلافی، معاوضہ، اجرت، ضمانت، ہرجانہ، تاوان، نقصان وغیرہ سے حفاظت، انعام، وظیفہ۔ تَکَافُؤ: باہمی مطابقت، مماثلت، یکسانی، ہم قدری، برابری، مساوات، ہم رنگی، ہم نوعی، ہم جنسی، یکسانیت۔ اِنکفاء: پیچھے ہٹنا، پسپائی۔ مُکَافِئ: برابر، مانند، ایک ہی قسم کا، ہم قسم، متجانس، مماثل، متساوی، مناسب، حسب حال، ہم قیمت، برابر، مساوی۔

کفت: کَفَتَ ـ کَفْتًا الشیئَ: کو قبض کرنا۔ — الشیئَ الی نفسه: کو اپنے ساتھ ملانا۔ — الشیئَ: الٹ جانا۔ — ہ: کو پھیر دینا۔ عوام کہتے ہیں کَفَتَ الشیئَ: کو جلدی سے انڈیلنا۔ فلانٌ ذیلَه: دامن سمیٹنا۔ — ہٗ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو وفات دینا، کہا جاتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اکْفِتْهُ اِلَیْكَ: اے اللہ اس کو موت دے۔ کَفَتَ کَفْتًا و کِفَاتًا و کَفِیْتًا الطائرُ وغیرہٗ: پرندے وغیرہ کا تیز اڑنا، دوڑنا اور سمٹنا۔ کَفَّتَ الشیئَ: کو

قبض کرنا۔ الشیئَ الی نفسه: کو اپنے ساتھ ملانا۔ ۔ فلانٌ ذیلَهٗ: دامن سمیٹنا۔ کَافَتَ مُکَافَتَةً و کِفَاتًا الرجلَ: سے دوڑنے میں سبقت لے جانا۔ تَکَفَّتَ الثوبُ: کپڑے کا سمٹنا۔ الطائرُ وغیرہٗ: پرندہ کا تیز اڑنا یا دوڑنا اور سمٹنا۔ ۔ فی مسیرہ: دوڑنا۔ اِنْکَفَتَ: سکڑنا، پھرنا۔ ۔ الفرسُ: گھوڑے کا لاغر ہونا۔ اِکْتَفَتَ المالَ: سب لے لینا۔ الکَفْتُ (مص): موت، الٹ پلٹ ہونا، چھوٹی ہنڈیا۔ ۔ فی عدو ذی الحافر: تیزی سے ہاتھ میں قبضہ کر لینا کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ کَفْتٌ: دبلا پتلا ہلکا پھلکا مرد، اور کہا جاتا ہے۔ خُبْزٌ کَفْتٌ: پتلی اور ہلکی روٹی۔ الکِفْتُ: چھوٹی ہنڈیا۔ الکُفْتُ و الکُفْتَةُ من الخیل: بہت اچھلنے کودنے والا گھوڑا جو سوار نہ ہونے دے۔ الکُفْتَةُ (ط): کوفتہ، سیخ کباب۔ الکِفَاتُ (مص): چیز جمع کرنے کی جگہ، جمع شدہ چیز، کہا جاتا ہے مات کِفَاتًا: اچانک مرجانا۔ کِفَاتُ الارْضِ: زمین کی سطح زندہ لوگوں کے لئے اور زمین کا باطن مردوں کے لئے۔ الکَفَّاتُ: فعال کے وزن پر اسم مبالغہ (ح) شیر۔ الکَفِیْتُ (مص): توشہ دان جس برتن میں کھانا رکھا جائے، وہ شخص جو تم سے آگے بڑھ جائے۔ ۔ من الرجال: ہلکا پھلکا تیز مرد۔ عَدْوٌ کَفِیْتٌ: تیز دوڑ۔ المُکْفِتُ: دو زرہوں کا پہننے والا جن کے درمیان میں کپڑا ہو، کہا جاتا ہے۔ مَاتَ مُکَافَتَةً: اچانک مرگیا۔

◌ کَفَتَ ۔ کَفْتًا ہ من: کو سے روکنا، سے باز رکھنا۔ کَفَّتَ ب: پر کا پتر چڑھانا، پر کا ملمع کرنا۔ ہ: پر منبت کاری کرنا، پر پچی کاری کرنا، جڑاؤ کام کرنا، مرقع کام کرنا۔ کِفْت: پکانے کا برتن، ہانڈی۔ کُفْتَة: کوفتے، بڑے گوشت کے برگر۔ سَمَكٌ کفته: تلی ہوئی مچھلی کی ٹکیاں، کفتة بطاطس: آلو اور قیمہ کے پکوڑے۔ تکفیت: پچی کاری کرنا، جڑاؤ کام، پچی کاری، جڑاؤ کام، منبت کاری، مرقع کام، پتر کاری کرنا، پتر کاری، دھات چڑھانا۔ مُکَفَّت: پچی کاری کیا ہوا، پتر کاری کیا ہوا، منبت کاری کیا ہوا، پتر چڑھایا ہوا۔

کفح: ا۔ کَفَحَ ۔ کَفْحًا العدوَّ: کے آمنے سامنے ہونا، دشمن کے روبرو ہونا۔ الشیئَ: کا سرپوش اتارنا۔ ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ لجامَ الدابَّةِ: چوپایہ کو ٹھہرانے کے لئے لگام کھینچنا۔ کَفِحَ ۔ کَفْحًا عنهُ: سے شرمندہ ہونا، میں بزدل ہونا۔ کَافَحَ القومُ اعداءَ هُمْ: بغیر ڈھال وغیرہ کے دشمن کے مقابلے پر آجانا، کہا جاتا ہے۔ هُوَ یُکَافِحُ الامُوْرَ: وہ امور کو خود انجام دیتا ہے۔ ۔ عنهُ: کا دفاع کرنا۔ اَکْفَحَ الدابَّةَ: چوپایہ کو ٹھہرانے کیلئے لگام کھینچنا۔ فلانا عن نفسه: کو خود سے ہٹانا، دفع کرنا۔ تَکَافَحَ القومُ: آمنے سامنے مقابلہ کرنا۔ ۔ تِ الامواجُ: موجوں کا ٹکرانا۔ ۔ تِ الکباشُ: مینڈھوں کا ایک دوسرے کو سینگ مارنا۔ الکِفَاحُ (مص): کہا جاتا ہے۔ لَقِیْتُهٗ کِفَاحًا: میں نے اس سے آمنے سامنے ملاقات کی۔ الکَفِیْحُ: نظیر، کفو، اچانک آنے والا مہمان، شوہر۔

۲۔ الکُفْحَةُ: چھوٹی سی جماعت۔ الاَکْفَحُ: سیاہ۔

◌ کَفَحَ ۔ کَفْحًا ہ: سے روبرو ملنا، کے روبرو ہونا، سے کشادہ دل سے ملنا۔ کَافَحَ ہ: کے روبرو ہونا، سے روبرو ملنا۔ سے کشادہ دلی سے ملنا۔ ہ/ ہ: سے لڑنا، کا مقابلہ کرنا۔ ہ: پر غالب ہونے کی جدوجہد کرنا، کے خلاف لڑنا۔ عن: کا دفاع کرنا۔ کیلئے لڑنا۔ کَافَحَ اُموْرَهٗ: اپنے معاملات کا ذاتی طور پر انتظام کرنا۔ کِفاح و مکافحة: مخالفت، لڑائی، جنگ، جدوجہد، جھگڑا۔

کفخ: کَفَخَ ۔ کَفْخًا ہٗ: کو طمانچہ مارنا۔ ۔ ہٗ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ الکَفْخَة: جمع شدہ سفید مکھن۔ رَجُلٌ مِکْفَخٌ و عُمُوْدٌ مِکْفَخٌ: مضبوط آدمی اور ستون۔

کفر: ا۔ کَفَرَ ۔ کَفْرًا و کُفْرًا الشیئَ: کو چھپانا، ڈھانکنا کہا جاتا ہے۔ کَفَرَ دِرْعَهٗ بِثَوْبِهٖ: اس نے اپنی زرہ کو اپنے کپڑے سے چھپایا۔ ۔ اللیلُ الشیئَ و علی الشیئ: کو ڈھانکنا۔ ۔ الجهلُ علیٰ علم فلان: کے علم پر جہالت کا غالب آنا۔ کَفَرَ ۔ کَفْرًا و کُفْرًا و کُفُوْرًا و کُفْرَانًا: کفر کرنا۔ ۔ بالخالق: کی نفی کرنا۔ ۔ کُفْرًا و کُفُوْرًا و کُفْرانًا نِعَمَ اللّٰهِ و بِنِعَمِ اللّٰهِ: اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ بکذا: سے بیزار ہونا۔ کَفَّرَ الشیئَ: کو چھپانا۔ الرجُلَ: کو کفر پر برانگیختہ کرنا، کی کفر کی طرف نسبت کرنا۔ اللّٰهُ لَهُ الذَّنْبَ: اللہ کا اس کا گناہ معاف کرنا، گناہ مٹانا۔ ۔ عن یمینه او اثمه: کی قسم یا گناہ کا کفارہ ادا کرنا۔ کَافَرَ مُکَافَرَةً فلانًا حقَّهٗ: کے حق کا انکار کرنا۔ اَکْفَرَ: اطاعت اور ایمان کے بعد گناہ اور کفر اختیار کرنا۔ الرجُلَ: کو کافر کہنا، کفر کی طرف منسوب کرنا، کافر بنانا، کفر کرنے پر مجبور کرنا۔ تَکَفَّرَ المحاربُ فی سلاحه: جنگجو کا زرہ پہننا کہا جاتا ہے۔ تَکَفَّرَ بِثَوْبِكَ: اپنے کپڑے پہن لے۔ اِکْتَفَرَ: دیہات میں رہنا۔ الکَفْرُ (مص) کُفُوْرٌ: دور کی زمین، دیہات، سریانی زبان میں یہ کَفْرا ہے جس کا معنی ہے، دیہات، کھیتی، کھیت، مٹی کیونکہ یہ اپنی نچلی چیز کو چھپا دیتی ہے، قبر۔ ۔ والکِفْرُ و الکَفَرَةُ: رات کی تاریکی، سیاہی۔ الکُفْرُ: ایمان کی ضد۔ کفر۔ الکَفَرُ والکَفَرَّیٰ و الکُفُرَّیٰ و الکِفِرَّیٰ: کھجور کے شگوفے کا غلاف۔ الکُفْرَانُ: منعم کی نعمت کی ناشکری اور انکار، ایمان کی ضد۔ الکَافِرُ (فا) ج کَافِرُوْنَ و کَفَرَةٌ و کُفَّارٌ و کِفَارٌ: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا (کُفَّارٌ اس کافر کی جمع میں اکثر استعمال ہوتا ہے جو مومن کی ضد ہے اور کَفَرَةٌ کا استعمال اکثر اس کافر کی جمع میں ہے جو بمعنی ناشکر گزار ہے) تاریک رات، سمندر، بڑی وادی، دور کی زمین، بڑا دریا، کالا بادل، تاریکی، زرہ، وہ شخص جس نے زرہ کو اپنے کپڑوں سے چھپا رکھا ہو، ہتھیار بند، کھجور کے شگوفے کا غلاف، کاشتکار، نباتات۔ من الخیل: کالا گھوڑا۔ الکَافِرَةُ ج کَافِرَاتٌ و کَوَافِرُ: کافر کی مونث۔ الکَوَافِرُ: شراب کے مٹکے۔ الکَفُوْرُ ج کُفُرٌ بمعنی کافر، (اس کی جمع سالم نہیں آتی) الکَفَّارُ: بروزن فعال اسم مبالغہ۔ رجُلٌ کَفَّار: اللہ کا نعمتوں کا ناشکرا۔ الکَفَّارَةُ الکَفَّارُ کا مونث: گناہ کا کفارہ، صدقہ یا روزہ جو کفارہ میں ادا کیا جائے۔ الکَافُوْرُ ج کَوَافِیْرُ و کَوَافِرُ: کھجور کا شگوفہ، یا کھجور کے شگوفے کا غلاف، خوشۂ انگور نکلنے کی جگہ (ن) جنوبی چین کا ایک پودا جس کے پتے کبھی خشک نہیں ہوتے اور پھول زردی مائل سفید، کافور اسی سے نکالا جاتا ہے۔ (ك): عطری مواد جو کافور کے درخت سے نکلتا ہے اور دواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ المُکَفَّرُ (مفع): وہ احسان کرنے والا جس کی ناشکری کی گئی ہو، لوہے میں بندھا ہوا۔ طَائِرٌ مُکَفَّرٌ: پروں میں چھپا ہوا پرندہ۔ المُکَفَّرُ و المُتَکَفِّرُ: ہتھیار بند۔

۲۔ کَفَّرَ لَه: تعظیماً کسی کے سامنے سینہ پر ہاتھ رکھنا اور سر جھکانا۔ کُفِّرَ للملك: کو تاج پہنایا جانا کہ جس کے دیکھنے سے تعظیم کرنا لازم ہو۔ التَّکْفِیْرُ: فارسیوں کا اپنے بادشاہ کی تعظیم کرنا۔

۳۔ الکَافِرُ: ہموار زمین۔ الکَفْرُ: چھوٹی لاٹھی۔ الکَفَرُ واحد کَفَرَةٌ: پہاڑ کی گھاٹیاں۔ الکَفْرُ من الجبال: بڑا پہاڑ۔

◌ کَفَرَ ۔ کُفْرًا و کُفْرَانًا و کُفُوْرًا: بے دین ہونا، لامذہب ہونا، ملحد ہونا۔ باللّٰه: اللہ پر ایمان نہ لانا، یقین نہ کرنا، اللہ کو نہ ماننا۔ ۔ خدا کی شان میں گستاخی کرنا، لامذہب ہوجانا، بے دین ہوجانا۔ ہ / ب: کا ناشکرا ہونا۔ کَفَّرَ ہ: کو چھپانا، ڈھکنا۔ عن: کا کفارہ ادا کرنا۔ عن ب: کی سے تلافی کرنا۔ ۔ عن ہ: کو کی

معافی دینا، کے (گناہ) بخش دینا۔ ل / عن: کچھ کسی کو معاف کر دینا، کی کو معافی دینا۔ ــــ ہ: کو بے دین، لامذہب، ملحد بنانا، کو کفر پر ورغلانا، کو کفر سے متہم کرنا، پر کفر کا الزام لگانا۔ کَفَّرَہٗ: کو کافر بنانا کو کافر کہنا، کو کفر سے متہم کرنا۔ کَفر جمع کُفُور: چھوٹا گاؤں، کھیڑا۔ کُفْر و کُفْران: کفر۔ کُفر باللّٰہ: کفر، انکار خدا، الحاد، مذمت دین، تحقیر دین، خدا کی بے ادبی۔ کُفْران بالنعمۃ: کفران نعمت، نعمت کی ناشکری۔ کَفَّار: کافر، غیر مسلم۔ کَفَّارۃ عن: گناہ سے توبہ، گناہ کا کفارہ، گناہ کی تلافی، صدقہ، بدلہ۔ تَکْفِیر عن: بمعنی بالا۔ تکفیر: کفر پر ورغلانا، کفر کا الزام۔ کَافِر جمع کافِرون و کُفَّار و کَفَرۃ و کِفار: لامذہب، کافر، غیر مسلم، بے دین، دہریہ، ملحد، ناشکرا۔ کافر بالنعمۃ: نعمت کا ناشکرا۔

کفس: کَفِسَ ـ کَفَسًا تُ رِجْلُ الصبیّ: بچے کے پاؤں کا ٹیڑھا ہونا۔ صفت اَکْفَسُ مونث کَفْسَاءُ ج کُفْسٌ۔ اِنْکَفَسَ تْ رِجْلُ الصبیّ: بچہ کے پاؤں کا ٹیڑھا ہونا۔ ــــ الرجُلُ: مرد کا دوہرا ہونا۔ الکِفَاسُ: بچے کے بدن پر باندھنے کا کپڑا، بدن سے ملے ہوئے کپڑے سے اوپر کا کپڑا۔

○ کَفَسَ ـــ کَفَسًا و اِنْکَمَف: ٹیڑھے پاؤں والا ہونا۔ اَکْفَس: مونث کَفْسَاء جمع کُفْس: ٹیڑھے پاؤں والا

○ کَفْکَف ہ: آنسو روکنا۔

کفل: کَفَلَ ـُ کَفْلًا و کَفَالَۃً فلانًا: کے نان ونفقہ کا ذمہ دار ہونا۔ ــــ الشیئَ الیہ: کو سے ملانا۔ ــــ فی صیامہ: لگاتار روزے رکھنا۔ کَفَلَ ـِـُ و کَفِلَ ـَ و کَفُلَ ـــ ُ کَفْلًا و کُفُولًا الرجُلَ وبالرجل والمالَ وبالمال: کا ضامن ہونا، کہا جاتا ہے۔ کَفَلَ عَنْہُ بالْمَالِ لِغَرِیْمِہٖ: اس نے قرض خواہ کے لئے مال کی ذمہ داری لی۔ کَفَّلَ ہٗ: کے نان ونفقہ وغیرہ کا ذمہ دار ہونا۔ المقاضی الخصمَ: قاضی کا مخالف سے ضامن لینا۔ ــــ ہٗ ایاہُ: کو کا ضامن بنانا۔ کَافَلَ مُکَافَلَۃً ہٗ: سے معاہدہ کرنا۔ اَکْفَلَ ہٗ اِیَّاہُ: کو کا ضامن بنانا۔ ــــ زید عمروا: زید کا عمر کے مال کا ضامن ہونا۔ تَکَفَّلَ البعیرَ: اونٹ کے کوہان پر گول زین رکھ کر سوار ہونا۔ ــــ لہ بکذا: کا کیلئے ضامن ہونا، کہا جاتا ہے۔ تَکَافَلَ القومُ: بعض بعض کا ضامن ہونا۔ تَکَفَّلَ بالْمَالِ: کو اپنے ذمہ کر لیا۔ اِکْتَفَلَ البعیرَ: اونٹ کے کوہان پر گول زین رکھ کر سوار ہونا۔ ــــ بفلان: کو کسی جانور پر اپنے پیچھے سوار کرنا۔ ــــ بالشیی: کو پیچھے کرنا، کہا جاتا ہے۔ اِکْتَفَلُوْا بالْجَبَلِ: یعنی پہاڑ سے گزر گئے اور اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ الکَافِلُ (فا) ج کُفَّلٌ: ضامن، یتیم کا متولی، عیالداری کرنے والا، لگاتار روزے رکھنے والا، کہا جاتا ہے۔ بَاتَ فُلَانٌ کَافِلًا: فلاں نے اس حالت میں رات گزاری کہ نہ تو دن کو کھانا کھایا نہ رات کو۔ الکِفْلُ ج اَکْفَالٌ: وہ چیز جو سوار کی اس کے پیچھے سے حفاظت کرے، ضمانت، بیل کی گردن پر جوئے کے نیچے کا چیتھڑا، چیتھڑے وغیرہ سے ایک گول سی چیز بناتے ہیں اور اس کو اونٹ کے کوہان پر رکھتے ہیں تاکہ بیٹھنے میں آسان رہے، پیچھے سوار ہونے والا، اون جو پہلے اون کے گرنے کے بعد نکلے، وہ شخص جو میدان جنگ میں آخر میں رہے اور بھاگنے کے لائے تیار کھڑا ہو، وہ شخص سواری پر برقرار نہ رہ سکے، حصہ، نصیب، نظیر، مثل، دو چند ثواب یا گناہ، وہ شخص جو اپنی جان و مال کو دوسرے کے ذمے ڈال دے۔ الکَفَلُ من الدابۃ: چوپایہ کا چوتڑ یا سرین کا پچھلا حصہ۔ الکَفَالَۃُ ج کَفَالَاتٌ: ضمانت (کَفَلَہ سے اسم ہے)۔ الکُفُولَۃُ: اسم ہے کَفْلٌ کا اور کفل اس کو کہتے ہیں جو شخص گھوڑے پر جم کر نہ بیٹھ سکے۔ الکَفِیْلُ ج کُفَلَاءُ: ضامن، ہم مثل، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ کَفِیْلٌ وَامْرَاَۃٌ کَفِیْلٌ وقَوْمٌ کَفِیْلٌ۔

○ کَفَلَ ـــ ُ کَفْلًا و کَفَالَۃً ہ: کو کھلانا، کا بوجھ اٹھانا، سہارا ہونا، کے گھر کا خرچ چلانا۔ عائلۃ: کنبہ کا خرچ چلانا۔ کَفَلَ ـِـُ و کَفِلَ ـَ و کَفُلَ ـُ کَفْلًا و کُفُولًا و کَفَالَۃً ب: کا ذمہ لینا، کا ذمہ دار ہونا، کے لئے جواب دہ ہونا، کا ضامن ہونا، کفیل ہونا۔ ــــ ہ: کی ذمہ داری اپنے سر لینا، کی ضمانت دینا، کا قانونی سرپرست ہونا۔ ــــ ہ: کی ذمہ داری لینا، کی ضمانت دینا۔ ــــ ہ ل: کی کو ضمانت دینا۔ کَفَّلَ ہ: کو کھلانا، کا بوجھ اٹھانا، کا سہارا ہونا، کے گھر کا خرچ چلانا، کو بطور ضمانت، ذمے دار، ضامن یا کفیل تسلیم کرنا، کو بطور ضامن نامزد کرنا، سے ضمانت یا ضمانت دینے کی درخواست کرنا، کو بطور ضمانت و کفالت مقرر کرنا۔ کَافَلَ ہ: سے معاہدہ کرنا۔ اَکْفَلَ ہ: کو بطور ضامن مقرر کرنا، سے ضمانت دلوانا۔ تَکَفَّلَ ل ب: کی کے لئے ضمانت ہونا کا کیلئے ذمہ دار یا جواب دہ ہونا یا ہو جانا، کا کیلئے ضامن یا کفیل ہونا، کو کی ضمانت دینا، سے خود کو کچھ کرنے کے لئے پابند کرنا، سے کچھ کرنے کا عہد کرنا۔ ــــ ب: کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا۔ تَکَافَلَ: ایک دوسرے کا ذمہ دار ہونا، ایک دوسرے کی ضمانت دینا۔ کَفَل: ضمانت نامہ، کفالت نامہ۔ کَفَل جمع کِفال و کُفُول: پڑا، پٹھا، سرین، چوتڑ، گھوڑے کا پٹھا۔ کَفَالَۃ: ضمانت، کفالت۔ کفالۃ مالیۃ: مالی ضمانت، مچلکہ، زر ضمانت۔ کفالۃ بالنفس: کسی شخص کی عدالت میں حاضری کا مچلکہ۔ فی کفالۃِ فلان: کے زیر حفاظت، سرپرستی یا اتالیقی، کے زیر حراست، کی زیر نگرانی۔ کَفِیل جمع کُفَلَاء: ذمہ دار، جوابدہ، ضامن۔ ــــ ب: کا ضامن، کی ذمہ داری لینے والا۔ ــــ: محافظ، نگہبان، قانونی سرپرست۔ کفیل بالنفس: کسی شخص کی عدالت میں حاضری کا ضامن۔ تَکَافُل: باہمی یا مشترکہ ذمہ داری، استحکام، باہمی معاہدہ۔ کَافِل: روٹی کمانے والا، مدد کرنے والا، سہارا، گھر کا خرچ چلانے والا، ضامن، ضمانتی، دوسرے کی طرف قرض کی ادائیگی کا ضامن، دوسرے شخص کا سرکاری طور پر ذمہ دار ہونے کا اقرار کرنے والا۔ محافظ، قانونی سرپرست۔ مَکْفُولٌ (بہ): ضمانت دیا گیا، جس کی ذمہ داری لی گئی ہو، گردش میں کافی بینک نوٹ۔

کفن: الکَفَنَ ـِ کَفْنًا الجمرَ بالرماد: چنگاری کو راکھ میں دبا دینا۔ ــــ الخبزۃَ فی الملّۃ: بھوبھل میں روٹی چھپانا۔ وکَفَّنَ المیتَ: میت کو کفن دینا۔ تَکَفَّنَ بکذا: کے ذریعے چھپنا۔ الکَفَنُ ج اَکْفَانٌ: کفن، جو میت کو پہنایا جاتا ہے۔

۲ کَفَنَ ـِ کَفْنًا الصوفَ: اون کاتنا۔

۳ طَعَامٌ کَفْنٌ: بے نمک کھانا۔ الکَفْنَۃُ (ن): ایک درخت کا نام ہے اور بقول بعض ایک گھاس ہے جو زمین پر بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ الکُفُنَۃُ: عمدہ زمین جو ہر چیز کو اگائے۔ قَوْمٌ مُکَفَّنُوْنَ: ایسے لوگ جن کے پاس نمک نہ ہو۔

کفہ: الْمَکَافِہُ: فوج کا سردار۔

۲ اِکْفَهَرَّ اِکْفِهْرَارًا اللیلُ: رات کا سخت تاریک ہونا۔ ــــ السحابُ: بادل گھٹا ٹوپ ہونا۔ ــــ النجمُ: ستارہ کا سخت تاریکی میں چمکنا۔ ــــ الرجُلُ: تیوری چڑھانا۔ المُکْفَهِرُّ (فا): ہر تہ بتہ چیز، سخت اور بلند پہاڑ، کم گوشت سخت اور بے حیا چہرہ، کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ مُکْفَهِرُّ اللَّوْنِ: یعنی فلاں کا رنگ تیرگی کی طرف مائل ہے۔ اوفُلَانٌ مُکْفَهِرٌّ: یعنی فلاں ترش رو ہے۔

○ اِکْفِهْرَار: تاریکی، اندھیرا، شام کا دھندلکا، جھٹ پٹا، ظلمت، تیرگی، دھندلا پن۔ مُکْفَهِرّ: تاریک، بے نور، دھندلا، پھیکا، سیاہی مائل، ابر آلود، بادلوں سے گھرا ہوا، افسردہ دل، اداس، غمگین۔

کفو: الکُفْوُ والکُفَی: مثل، نظیر۔

كفيي ۱۔ كَفَى يَكْفِيْ كِفَايَةً الشيئُ کافی ہونا۔ صفت كَافٍ ۔ الشيئُ فلانا کسی چیز پر قناعت کرنا اور دوسرے سے مستغنی ہونا۔ فلانا مؤونته کہا جاتا ہے: كَفَيْتُهُ شَرَّ عَدُوِّهِ: یعنی میں نے اس کو دشمن کے شر سے بچا دیا۔ اور كَفَى کے فاعل پر باء کی زیادتی ہوتی ہے، جیسے كَفَى باللّٰهِ شَهِيْدًا: یعنی اللہ تعالیٰ کی شہادت غیر سے مستغنی کر دیتی ہے یہاں اسم جلالت (اللہ) فاعلیت کی بناء پر مرفوع ہے اور شہیدًا تمیز ہے۔ كَافَى كِفَاءً او مُكَافاةً الرجُل: کیلئے کافی ہونا کو بدلہ دینا۔ اِكْتَفَى بكذا: پر قناعت کرنا، سے مستغنی ہونا۔ اِسْتَكْفَى الرجُل الشيئَ: سے کافی چیز مانگنا تم کہتے ہو۔ اِسْتَكْفَيْتُهُ الأمْرَ فكفانِيْهِ: میں نے درخواست کی کہ وہ مجھے اس کام کی زحمت سے بچائے تو اس نے مجھے وہ کام کرنے سے بے نیاز کر دیا۔ الكَافِي: جو تمہاری ضرورت کو پورا کر دے اور تمہیں غیر سے مستغنی کر دے، کہا جاتا ہے۔ هذا رجل كافيك من رجل ورجلان كافياك من رجلين ورجال كافوك من رجال: یہ مرد تمہارے لئے دوسرے مرد سے کافی ہے اور اسی قیاس پر تثنیہ اور جمع کا ترجمہ کر لیں۔ اصل یہ ہے رجُل كافٍ يكفيك من رجل آخر (تمہیں ایک مرد دوسرے مرد سے کافی ہے) الكِفَايَة: (مص) جو کافی ہو اور غیر سے مستغنی کر دے۔ الكَفْيُ والكِفْيُ والكُفْيُ ج اكْفَاءٌ: وہ چیز جس سے گزارہ ہو جائے، کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ كَفْيُكَ مِنْ رَجُلٍ: یہ مرد اس مرد سے تمہارے لئے کافی ہے، اس میں مفرد، تثنیہ جمع اور مونث و مذکر سب برابر ہیں الكَفْيَة ج كُفًى: گزارہ، جو تمہاری زندگی گزارنے کے لائق ہو۔ الكَفِيُّ: جو تمہارے لئے کافی ہو اور تجھے غیر سے بے نیاز کر دے۔ كَفِيُّ الرَّجُلِ: مرد کا قائمقام۔ المُكَافاة (مص): احسان کا احسان سے یا اس سے زیادہ سے مقابلہ، کہا جاتا ہے۔ رَجَوْتُ مُكَافاتك: میں نے تمہارے کافی ہونے کی امید کی۔

۲۔ تكفى النباتُ: نباتات کا طویل ہونا۔ الكَفِيُّ: بارش۔

۳۔ الكِفْيُ جمع أَكْفَاء: اندرونِ وادی۔

كَفَى ۔ كِفَايَةً ہ: کیلئے کافی ہونا، کو کفایت کرنا۔ ہ: کو کسی سے محفوظ کرنا، کی سے حمایت کرنا۔ ہ ھ کو کسی چیز سے محفوظ کرنا۔ ہ ھ کو کسی مصیبت وغیرہ سے بچانا۔ وكَفَى: یہ کافی ہے۔ كفى الله عنك: اللہ تمہاری کمی پوری کرے۔ كفى بالله وكيلا: اللہ بہترین محافظ ہے۔ كفى حُزْنًا ان: یہ بہت افسوسناک ہے کہ كفاهُ مؤنة كذا: کو کی زحمت سے بچانا۔ كَافَى ہ: کیلئے کافی ہونا۔ ہ ب کو سے بدلہ دینا، کو سے جزا دینا، صلہ دینا، انعام دینا، معاوضہ دینا۔ اِكْتَفَى ب: پر رضامند ہونا، آسودہ خاطر ہونا، مطمئن ہونا۔ كِفَايَة: کافی مقدار، درجہ، حد وغیرہ، کافی ہونا، کفایت، قابلیت، موزونیت، مہارت، استعداد، صلاحیت، کارگزاری۔ بالكِفَايَة: کافی طور پر، بخوبی، کافی۔ كفاية القتال: لڑنے کی قوت۔ عدم الكفاية الجنسية: جنسی کمزوری، نامردی۔ كَفِي: کافی، بہت مكافاة: انعام، فرحت، تسکین۔ اِكتفاء: خوشی، حالت اطمینان، اطمینان دلجمعی، قناعت كَافٍ ج كُفَاة: کافی، بہت، موزوں، مناسب، قابل، مستند، ماہر، ماہر، ہنرمند، آزمودہ کار، سلیقہ مند، ہوشیار، اہل، صاحب اختیار، لائق۔ مُكْتَفٍ: صابر، قانع، مطمئن، راضی، صابر شاکر۔

ككو: الكاكاو: (ن) چوڑے پتوں چھوٹے پھولوں اور بڑے پھلوں والا استوائی امریکا کا ایک درخت جس کے بیج سے کاکاو نکالا جاتا ہے جو چاکلیٹ بنانے کیلئے بنیادی مادہ سمجھا جاتا ہے۔

ككي: الكاكي: اسے جاپانی مشمش بھی کہتے ہیں (ن) یہ ایک چینی پودا ہے اس کی بلندی دس میٹر تک ہو جاتی ہے اس کے پھل رنگ میں یا تو نارنگی زرد ہوتے ہیں یا پھر چمکدار سرخ۔

كل ۱۔ كَلَّ ـِ كَلًّا وكِلَّةً وكَلالًا وكُلُولًا وكَلالَةً وكُلُولَةً: تھکنا صفت كَالٌّ ۔ السيفُ وغيرهُ تلوار وغیرہ کا کند ہونا۔ صفت كَلٌّ وكَلِيْلٌ۔ — اللسانُ او البصرُ: زبان یا نگاہ کا اچھی طرح سے کام نہ دینا۔ كَلَّلَ السيفُ: تلوار کا کند ہونا۔ — الرجُل: اپنے اہل وعیال کو ضائع ہونے کے لئے چھوڑ کر چلا جانا — عن الامر: سے بزدل ہو کر رکنا۔ اَكَلَّ — البكاءُ بَصَرَهُ: آہ و بکا کا نگاہ کو مدہم کر دینا۔ — البعيرَ: اونٹ کو تھکا دینا۔ — الرجُل: تھکے ہوئے اونٹ والا ہونا۔ اِنْكَلَّ السيفُ: تلوار کا کند ہونا۔ الكَلّ (مص): اس کا اطلاق واحد جمع سب پر ہوتا ہے اور بعض مذکر و مونث کی جمع كُلُول کہتے ہیں: کمزور، گراں جان بے خیر مرد، چھری یا تلوار کی پیٹھ، مصیبت، فقیر، عیال، وکیل، یتیم، بوجھ، بت الكَلَّة: كَلّ سے اسم مرہ، کند چھری۔ الكَلَّة: تاخیر، دیر۔ الكَلالَة: تھکن۔ الكَلِيْل ج كِلالٌ: تھکا ہوا، کہا جاتا ہے۔ بَصَرٌ كَلِيْلٌ: کمزور نگاہ، وسَيْفٌ كليل: کند تلوار۔

۲۔ كَلَّ ـِ كَلًّا وكِلَّةً وكَلالًا وكُلُولًا وكَلالَةً وكُلُولَةً: بے والد اور بے اولاد ہونا۔ كَلَّلَ ہ کو تاج پہنانا، — ہ بالحجارة پر پتھراؤ کرنا۔ السحابُ السماءَ: بادل چاروں طرف سے گھر آنا۔ تَكَلَّلَ: تاج پہنانا، — الشيئَ به کا احاطہ کرنا۔ تَكَلَّلُوهُ: لوگوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ الكَلّ جو بے والد اور بے اولاد ہو۔ كُل ایک اسم ہے جو متعدد کے افراد کے استغراق کے لئے یا واحد کے اجزاء کے عموم کے لئے وضع کیا گیا ہے اور بغیر اضافت کے استعمال نہیں کیا جاتا عام اس سے کہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، اور "ما" مصدریہ ظرفیہ کے داخل ہونے سے تکرار کا فائدہ دیتا ہے جیسے كُلَّمَا اَتَاكَ زَيْدٌ اَكْرِمْهُ یعنی زید جب کبھی تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو، اور معرفہ و نکرہ کی صفت میں بھی واقع ہوتا ہے اور اس وصف کی انتہاء پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے هُوَ الْعَالِمُ كُلُّ الْعَالِمِ: وہ بڑا کامل عالم ہے۔ اور معرفہ و نکرہ محدود کی تاکید میں واقع ہوتا ہے جیسے سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ وَاَقَمْنَا حَوْلًا كَامِلًا كُلَّهُ اور لفظ کل کا حکم افراد اور تذکیر کا ہے اور معنی باعتبار مضاف الیہ کے ہوں گے اگر نکرہ کی طرف اضافت ہوگی تو معنی کی رعایت واجب ہوگی اور اس کے بعد ضمیر مفرد مذکر آئے گی جیسے كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ بِحِكْمَةٍ اور مفرد مونث کی بھی جیسے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اور مثنیٰ کی جیسے وكُلُّ رَفِيْقَيْ كُلِّ رَحْلٍ وَاِنْ هُمَا اور مجموع مذکر کی جیسے وكُلُّ اُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ اور جمع مونث کی جیسے وكُلُّ مُصِيْبَاتِ الزَّمَانِ وَجَدْتُهَا اور اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو تو لفظ کی بھی رعایت جائز ہے اور معنی کی بھی جیسے كُلُّ الْقَوْمِ حَضَرَ، يَاكُلُّ الْقَوْمِ حَضَرُوْا اور مقطوع عن الاضافت کی صورت میں بھی لفظ و معنی دونوں کی رعایت جائز ہے جیسے كُلٌّ حَضَرَ وكُلٌّ حَضَرُوْا اور کہا گیا ہے کہ جب مضاف اليه مقدر مفرد اور نکرہ ہو تو مفرد لانا واجب ہے اور اگر جمع معرف ہو تو جمع لانا واجب ہے اور مقطوع عن الاضافت کی صورت میں تنوین مضاف الیہ کے بدلے میں ہے اور تقدیر پہلی مثال میں كُلُّ اَحَدٍ: ہے اور دوسری میں كُلُّهُمْ اور اگر لفظ کل نفی کے بعد واقع ہو تو نفی بعض افراد کی ہوتی ہے جیسے مَا جَاءَ كُلُّ الْقَوْمِ پوری قوم نہیں آئی کچھ آئے اور کچھ نہیں آئے، اور اگر لفظ کل پہلے ہو اور نفی بعد میں ہو تو نفی سارے افراد کی ہوگی جیسے كُلُّهُمْ لَمْ يَقُوْمُوْا یعنی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا اور اس پر الف لام داخل نہیں

ہوتا مگر اس وقت جب کہ مضاف الیہ کے عوض میں ہو یا لفظ کل ہی کا ارادہ کیا گیا ہو جیسے: اَلْکُلُّ لِاِحَاطَةِ الاَفْرَادِ۔

الکُلَّةُ: توپ کا گولہ، شیشے کی گولی جس سے بچے کھیلتے ہیں الکُلُّ کا مونث: کہا جاتا ہے۔ کُلَّةُ امْرَاَةٍ: جیسے کہا جاتا ہے۔ کُلُّ امْرِیٍٔ۔ الکِلَّةُ ج کِلَلٌ و کِلَاتٌ: باریک پردہ، مچھردانی یہ ناموسیہ کے نام سے معروف ہے، ہودج کے سرے پر سرخ اون۔ —— والکِلَلُ: حالت کہا جاتا ہے۔ بَاتَ بِکِلَّةِ سُوْءٍ: اس نے بری حالت میں رات گزاری۔ الکُلِّیُّ کل کی طرف منسوب یا جس پر اطلاق کیا جائے۔ العِلْمُ الکُلِّیُّ: علم الٰہی۔ الکُلِّیَّةُ: کالج جہاں مختلف علوم پڑھائے جاتے ہوں۔ کُلِّیَّةُ الشیئ: مکمل چیز، کہا جاتا ہے۔ اَخَذَهُ بِکُلِّیَّتِهِ: یعنی تمامہ لے لیا۔ الکُلِّیَّاتُ فی عرف المنطقیین: وہ مفہوم ہے جو بہت سے افراد پر صادق ہو اور اس کی پانچ قسمیں ہیں۔

۱۔ جنس: وہ کلی جس کے افراد کی حقیقتیں مختلف ہوں جیسے حیوان

۲۔ نوع: وہ کلی جس کے افراد کی حقیقتیں متحد ہوں جیسے انسان۔

۳۔ فصل: وہ کلی جو ماعدا سے ممتاز کردے جیسے ناطق۔

۴۔ خاصہ: وہ کلی عرضی جو ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو جیسے ضاحک۔

۵۔ عرض عام: وہ کلی عرضی جو ایک سے زائد حقیقت کے ساتھ ہو جیسے ماشی۔ الکَلَالَةُ: جس کے والد اور ولد نہ ہوں کیونکہ باپ اور بیٹا انسان کی نسل کے دو طرفیں ہوتی ہیں جب اس نے فوت ہونے کی حالت میں ان دونوں میں سے کسی کو بھی پیچھے وارث نہ چھوڑا تو گویا وہ دونوں طرفوں سے محروم فوت ہوا، دور کی رشتہ داری کہتے ہیں۔ هُوَ ابْنُ عَمِّ الکَلَالَةِ وَابْنُ عَمٍّ کَلَالَةً: وہ قبیلہ سے چچا زاد ہے، قریبی نسبتی رشتہ دار نہیں۔ — من القرابة: والد اور ولد نہ ہو، کیونکہ میت کی نسبت اور حسب و نسب انہی سے چلتا ہے جب یہ قریبی نہ رہے تو گویا وہ قریبی رشتہ داروں سے محروم ہے۔ الاِکْلِیْلُ ج اَکِلَّةٌ و اَکَالِیْلُ: تاج، جواہر سے مزین پٹکا، عیسائی اس تاج کو شادی کے لئے استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں۔ کَلَّلَ الکَاهِنُ العُرُوْسَیْنِ فَتَکَلَّلَا: کاہن نے شادی شدہ جوڑے کو تاج پہنایا انہوں نے پہن لیا، کیونکہ وہ شادی کی رسم کے موقع پر ان دونوں کے سروں پر تاج رکھتا ہے اور عیسائی کاہنوں کے سر کے بال کاٹتے وقت بھی اسے سر کے ارد گرد ڈالتے ہیں، ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔ — الاِکْلِیْلُ الدَّائِرِیُّ: اور اسے حلقہ دائرہ یہ بھی کہا جاتا ہے (ھ) متحد مرکز والے دو دائروں کے درمیان کی محصور سطح یعنی مساوی الجانبین ہو جس کی پیمائش ہے۔ (ش ۲۔ ش ۲) اِکْلِیْلُ المَلِكِ (ن): ننگی، تیتیا گھاس (ترفل) اِکْلِیْلُ الجَبَلِ (ن): اکلیل کوہستانی، ایک سبز جھاڑی نما پودا، اس کے خوشبودار سبز پتے مسالے کے طور پر اور ان کا تیل ادویات/عطریات سازی میں مستعمل ہے۔ (Rosemary)

۳۔ کَلَّلَ فی الامر: کوشش کرنا۔ السبعُ: درندہ کا حملہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ کَلَّلَ تَکْلِیْلَةَ السَّبُعِ: یعنی اس نے درندے جیسا حملہ کیا۔ — علیه بالسیف: پر تلوار سے حملہ کرنا۔

۴۔ تَکَلَّلَ السحابُ عن البرق: آہستہ آہستہ چمکنا۔ اِکْتَلَّ السحابُ عن البرق: آہستہ آہستہ چمکنا۔ — الغمامُ بالبرق: بادل میں بجلی چمکنا، کوندنا۔ اِنْکَلَّ الرجلُ: مسکرانا۔ البرقُ: بجلی کا آہستہ آہستہ چمکنا۔ — السحابُ عن البرق: آہستہ آہستہ چمکنا۔

۵۔ کَلَّا: ہرگز نہیں، حرف ردع ہے، تنبیہ اور زجر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

○ لا یکل: نہ تھکنے والا، ان تھک، بے حد سرگرم۔ کَلَّلَ ہ کو کا تاج پہنانا۔ —— : پادری کا مرد و عورت کے جوڑے کا نکاح کرنا۔ کُلِّلَ بالنجاح: کامیاب ہونا۔ تکلّلَ: شادی شدہ ہونا، کی شادی ہونا۔ کَلٌّ تھکاوٹ، تاریکی، دھندلا پن، کند ذہنی، سستی، ڈھیلا، ست، کند، دھندلا، دھندلی (نظر)، کمزور (ذہن) کِلَّة جمع کِلَات و کِلَل: مہین یا باریک برقعہ، نقاب، پردہ، لمبا پردہ، مچھردانی، کَلَل و کَلَال و کَلَالَة: تھکاوٹ، دھندلا پن، کند ذہنی۔ کَلِیْل تھکا ہوا، تھکا ماندہ، کمزور، کند، کند ذہن، اِکلیل جمع اکالیل و اَکِلَّة: تاج، مکٹ، کلاہ شاہی، پھولوں کا سرپیچ، پھولوں کا گجرا، ہار، پھولوں کا ہار، سنہرے تاروں کا ہار، سہرا، پھولوں کی مالا، شادی، شادی کی تقریب (مسیحیت میں) ہزارہ (ایک چھتری دار پھول جو گچھے کی طرح ہوتا ہے)۔ اِکْلِیْلُ الجبل: ایک قسم کی سدابہار جھاڑی جس کے پھول خوشبودار ہوتے ہیں۔ اکلیل الشوك: کانٹوں کا تاج اِکْلِیْلُ المَلِك: زرد شیرین بیتا۔ تکلیل: تقریب تاج پوشی، تاج پہنانا، کَال: تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔ مُکَلَّل: تاج پہنے ہوئے، ہار پہنے ہوئے، شادی شدہ (مسیحیت میں)۔

○ کُلّ: کلیت، مجموعیت، ہر ایک، سب (بصورت اضافت)۔ اَلْکُلّ: سب، سارا، جملہ، ہر چیز، بالکُلِّ: بحیثیت مجموعی، فی الجملہ، مجموعی طور پر، کھلا، ڈھیر کے حساب سے، سارے کا سارا۔ الکل فی الکل: ہر چیز پر مشتمل، قادر مطلق، کُلٌّ مِن فلان و فلان و فلان: الف، ب بھی ث بھی۔ علی کُلٍّ: بہرحال، بہر صورت کُلّه: اس کا سب، وہ پورے کا پورا، یہ سراسر کُلُّ ذلك: وہ سب کُلُّ البیت یا البیت کُلُّهُ: پورا گھر۔ کُلُّ الرجال یا الرجال کُلُّهُم: سب مرد۔ الحقیقة کُلُّ الحقیقة: ساری حقیقت، اصل واقعہ، السِرُّ کُلُّ السِرّ: ایک بہت بڑا راز، بھید۔ الخیرُ کُلُّ الخیر: سچی یا مکمل خوشی۔ کُلُّ رجلٍ: ہر آدمی، مرد۔ کُلُّ شیئٍ: ہر چیز، سب کچھ، سب کُلُّ اَحَدٍ: اور کُلُّ واحد: ہر ایک۔ کُلُّ مَنْ: ہر وہ شخص جو کوئی، جو بھی، جو بھی کوئی بھی۔ کُلُّ مَا: وہ سب، جو بھی کچھ، جس قدر، جو بھی کیسا ہی، جو کچھ بھی۔ کُلُّ ما فی الامر اَنَّ: یہ کچھ نہیں مگر، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ۔ کُلَّ وقتٍ: کسی وقت، ہمیشہ فی کُلِّ سَبْعَةِ اَیَّامٍ: ہر سات دنوں میں، ہر سات دن لِکُلِّ اَلْفٍ: فی ہزار، کُلَّما: جب بھی، جس وقت، جب بھی۔ کُلَّما ...... کُلَّما: جتنا ...... اتنا۔ کُلِّی: تمام، کامل، بے کم و کاست، عام، مجموعی، دوررس، بہت عام، جامع، مطلق، ہمہ گیر۔ کُلِّیَّة: مجموعیت، کلیت، سالمیت، کاملیت، جمع کُلِّیَّات: یونیورسٹی کا شعبہ، کالج، اعلیٰ تعلیم کا ادارہ، اکیڈمی، مدرسہ ثانوی۔ کُلِّیَّات: (مصنف کی) کی تخلیقات۔ پانچ منطقی خصوصیات۔ کُلِّیَّةً: یکسر، پوری طرح، بالکل، سراسر، مطلقاً۔ بِالکُلِّیَّة: بحیثیت مجموعی، فی الجملہ، مجموعی طور پر۔ لا بالکلیة: بالکل نہیں۔ بِکُلِّیَّتِهِ: مکمل طور پر، پوری طرح۔ کُلِّیَّة التجارة: کمرشل کالج۔ کلیة حربیة: ملٹری اکیڈمی۔ کُلَّة جمع کُلَل: (بندوق کی) گولی، (توپ کا) گولا، بم (بچوں کے کھیلنے کی) گولی۔ کَلَّا: بالکل نہیں، نہیں بلکہ، ہرگز نہیں، کسی صورت بھی نہیں، یقیناً نہیں، کبھی نہیں، کَلَّا ثُمَّ کَلَّا: ہزار بار نہیں، بالکل نہیں۔

کلأ: ۱۔ کَلَأَ ـ کَلْأً و کِلَاءً و کِلَاءَةً اللّٰهُ فلانًا: اللہ کا کسی کی حفاظت کرنا۔ — النجمَ متی یطلع: ستارے کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کرنا، انتظار کرنا۔ بصرهٗ فی الشیئ: کو بار بار دیکھنا۔ کَلَّا تَکْلِیئًا و تَکْلِئَةً السفینةَ: کشتی کو کنارے سے قریب کرنا۔ الرجلَ: کو باز رکھنا، روکنا۔ — فی الامر: کو غور سے

دیکھنا۔ تَکَلَّأَهُ: ہوا سے پناہ کی جگہ میں آنا۔ کَالَأَ مُکَالَأَةً وکِلَاءً ہ: کا انتظار کرنا۔ اَکْلَأَ اِکْلَاءً بصرَهُ في الشيئِ: کسی چیز کو دیر تک کی غرضی سے بار بار دیکھنا۔ ـــــ عینَهُ: کو جگانا۔ اِکْتَلَأَ اِکْتِلَاءً ت عینُهُ: بے خوابی میں مبتلا ہونا۔ ـــــ من فلان: سے بچنا۔ رَجُلٌ کَلُوْءُ العَیْنِ: مرد بیدار چشم جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو، عَیْنٌ کَلُوْءٌ: بے نیند کی آنکھ۔ الکَلَّاءُ: بندرگاہ، دریا کا کنارہ۔ المُکَلَّأُ: بندرگاہ، دریا کا کنارا، ہر وہ جگہ جہاں ہوا سے پناہ مانگ سکیں۔

۲۔ کَلَأَ ـَ کَلْأً و کُلُوْءَةً الدَّیْنُ: کی ادائیگی میں دیر ہونا صفت کَالِئٌ و کَالٍ۔ کَلَّأَ تَکْلِیْئًا: بیعانہ لینا۔ ـــــ تَکْلِئَةً في الطعام وغیرہ: میں بیع سلم وسلف وغیرہ کرنا۔ اَکْلَأَ اِکْلَاءً في الطعام میں بیع سلم یا سلف کرنا۔ تَکَلَّأَ واسْتَکْلَأَ الکُلْأَةَ: بیعانہ لینا۔ اِکْتَلَأَ کُلْأَةً: بیعانہ لینا۔ الکَالِئُ والکَالِیْ ج کَوَالِئُ وکَوَالٍ: بیعانہ، ادھار۔ الکُلْأَةُ: بیعانہ، ادھار۔

۳۔ کَلَأَ و کَلِیَٔ ـَ کَلَأً المکانُ: سبزہ زار ہونا۔ ـــــ ت الناقةُ: اونٹنی کا سبزی کھانا۔ اَکْلَأَ اِکْلَاءً المکانُ: جگہ کا بہت گھاس والی ہونا۔ ـــــ الناقةُ: اونٹنی کا گھاس کھانا۔ اِسْتَکْلَأَ المکانُ: سبزہ زار ہونا۔ الکَلَأُ ج اَکْلَاءٌ: خشک یا تازہ گھاس۔ مَکَانٌ کَلِیٌٔ و مُکْلِیٌٔ مونث کَلِئَةٌ و مُکْلِئَةٌ: بہت سبزہ زار جگہ۔ اَرْضٌ مُکْلَأَةٌ: بہت سبزہ زار زمین۔

۴۔ کَلَأَ ـَ کَلْأً و کُلُوْءَةً عمرُهُ: کی عمر کا ختم ہونا۔ اَکْلَأَ اِکْلَاءً عمرَهُ: کو ختم کر دینا۔ الْاَکْلَأُ: اسم تفضیل، کہا جاتا ہے۔ بَلَّغَ اللّٰهُ بِکَ اَکْلَأَ العمرِ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے۔

۵۔ کَلَأَ ـَ کَلْأً و کِلَاءً و کِلَاءَةً ہ بالسوط: کو کوڑے مارنا۔

۶۔ کَلَّأَ تَکْلِیْئًا وتَکْلِئَةً الی فلان في الامر: میں کی طرف آگے بڑھنا۔

ت: کَلَأَ ـَ کَلْأً و کِلَاءً و کِلَاءَةً ہ: کی حفاظت کرنا، کی پاسبانی کرنا، نگہبانی کرنا، رکھوالی کرنا، کو محفوظ رکھنا، کو نقصان سے بچانا۔ اِکْتَلَأَ: (آنکھ کا) بے خوابی میں مبتلا ہونا (آنکھ کو) نیند نہ آنا۔ کَلَأٌ جمع اَکْلَاءٌ: گھاس، نباتات، گھاس پات، جڑی بوٹیاں، چارہ گھاس۔ کَلُوءُ العین: بے خواب، بیدار۔

کلب: ۱۔ کَلَبَ ـِ کَلْبًا الفرسَ: گھوڑے کو مہمیز مارنا۔ ـــــ المزادةَ: توشہ دان میں تسمہ لگانا۔ کَلَبَ ـِ کَلْبًا الرجلُ: کتوں کے بھونکنے کے لئے انہیں کی طرح آواز نکالنا۔ ـــ الکَلْبُ: کتے کا شکاری ہونا، انسان کے کھانے کا عادی ہونا۔ کَلِبَ ـَ کَلَبًا: پیاسا ہونا۔ ـــــ الکَلْبُ: دیوانہ ہونا۔ ـــ الرجلُ: پاگل کتے کے کاٹنے سے دیوانگی والا ہونا۔ بغیر آسودگی کے بہت کھانا، کو دیوانہ کتے کا کاٹنا، دیوانہ کتے کے کاٹنے سے چیخنا، غضبناک ہونا۔ الکَلْبُ: کتے کا شکاری ہونا، انسان کے کھانے کا عادی ہونا۔ ـــــ علی الامر: کا حریص ہونا۔ ـــــ في کذا: کی امید رکھنا۔ ـــــ علی الرجل: سے اصرار کرنا، کہا جاتا ہے۔ کَلِبَ الدَّهْرُ عَلٰی اَهْلِهٖ: زمانے نے ان پر بار بار مصائب ڈھائے۔ ـــــ القِدُّ علی الاسیر: قیدی پر کسے ہوئے چمڑہ کا خشک ہونا اور کاٹنا۔ ـــ الشجرُ: درخت کی سیرابی نہ ہونے کی وجہ سے پتوں کا خشک ہونا اور گزرنے والوں کے کپڑوں سے الجھنا۔ الشتاءُ او الزمانُ: سخت ہونا۔ کُلِبَ کَلَابًا الرجلُ: کتے کے کاٹنے کی وجہ سے دیوانہ ہونا۔ کَلَّبَ الکلبَ: کتے کو سدھانا، شکار کرنا سکھانا۔ کَالَبَ کِلَابًا و مُکَالَبَةً الرجلَ: سے کھلم کھلا دشمنی کرنا اور اس پر تنگی ڈالنا۔ ـــــ ت الابلُ: اونٹوں کا کانٹے دار درخت چرنا۔ اَکْلَبَ القومُ: پیاسے اونٹوں والا ہونا۔ تَکَالَبَ القومُ: آپس میں کھلم کھلا دشمنی کرنا۔ تَکَالَبُوْا علی کذا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا کہا جاتا ہے۔ تَکَالَبَ النَّاسُ عَلَی الدُّنْیَا: یعنی لوگ دنیا کے بہت حریص ہو گئے۔ اِسْتَکْلَبَ الرجلُ: کتوں کی طرح بھونکنا۔ ـــــ الکَلْبُ: کتے کا شکاری ہونا۔ انسان کے کھانے کا عادی ہونا۔ الکَلْبُ ج کِلَابٌ و اَکْلُبٌ وجج اَکَالِبُ و کِلَابَاتٌ (ح): ہر ایک کاٹنے والا درندہ، کتا، کہا جاتا ہے۔ کَفَّ عَنْهُ کِلَابَهٗ: یعنی اس نے اس کو گالی دینی اور تکلیف پہنچانی چھوڑ دی۔ کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ بِوَادِی الکَلْبِ: جبکہ گھر بار نہ ہو جہاں وہ ٹھکانا لے سکے) چکی کے دھرے کے سرے کا لوہا، کجاوہ کے کنارہ کی میخ جس پر مسافر اپنے توشہ وغیرہ کو لٹکائے، دیوار میں ٹیک لگانے کی تھونی، تلوار کے قبضہ کی میخ، ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز باندھی جائے مثلاً تسمہ ـــــ (فلک): ایک ستارے کا نام۔ ـــــ کَلْبُ الْجَبَّارِ، اَلْکَلْبُ الْاَکْبَرُ و اَلْکَلْبُ الْاَصْغَرُ و کَلْبُ الرَّاعِیْ الخ...... (فلک) ستاروں کے نام، (ح): کَلْبُ المَاءِ: اود بلاؤ، سنجاب او کَلْبُ البَحْرِ: شارک مچھلی کَفُّ الکَلْبِ: (ن) ایک قسم کی پھیلی ہوئی گھاس۔ لِسَانُ الکَلْبِ: ایک پودا۔ الکِلَابُ البَرِیْدِیَّةُ (اع): ایام حرب میں ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والے کتے۔

الکَلَبُ (مص) (طب) کتے کی دیوانگی، سخت پیاس، موسم سرما کی ابتداء اور کہا جاتا ہے۔ دَفَعْتُ عَنْكَ کَلَبَ فلان: یعنی میں نے تم سے فلاں کے شر کو دور کر دیا۔ الکَلْبَةُ (ح): کتیا، کاٹنا اُمُّ کَلْبَةٍ: بخار۔ الکَلْبَتَان: لوہار کی سنی، دانت اکھاڑنے کا زنبور اور اس کو کَلَّابٌ بھی کہتے ہیں۔ الکُلْبَةُ: سختی، تنگی، قحط، سخت سردی (ح) بلی، کتے کی تھوتھنی کے دونوں طرف کے بال۔ الکَالِبُ: کتے والا، کتوں کا جھنڈ۔ الکَلِبُ ج کَلِبُوْنَ: کتے کے کاٹنے سے دیوانہ۔ عَامٌ کَلِبٌ: سخت قحط کا سال۔ دَهْرٌ کَلِبٌ: غم میں مبتلا کرنے والا زمانہ۔ سَائِلٌ کَلِبٌ: بہت اصرار سے مانگنے والا سائل، کہا جاتا ہے۔ هُوَ کَلِبٌ عَلٰی کَذَا: وہ فلاں چیز کا بہت حریص ہے۔ الکَلِبَةُ: کَلِبٌ کا مونث۔ خاردار درخت۔ اَرْضٌ کَلِبَةٌ و اَرْضٌ کَلِبَةُ الشَّجَرِ: خشک یا سخت زمین موسم بہار سے پہلے) الکُلَابُ: کتے کے کاٹنے کی وجہ سے دیوانگی۔ الکَلَّابُ والکَلُّوْبُ ج کَلَالِیْبُ: مہمیز، گھوڑے سوار یا سدھانے والے کے جوتے پر لگا ہوا لوہے کا ٹکڑا آگ نکالنے کیلئے مڑے ہوئے سر کی سلاخ، آنکس لوہے کا کنڈا، لکڑی جس کے آخر پر لوہا لگا ہو۔ کَلَالِیْبُ البَازِیْ: باز کے پنجے، کَلَالِیْبُ الشَّجَرِ: درخت کے کانٹے۔ الکَلَّابُ ج کَلَالِیْبُ: کتے والا، شکاری کتوں کو سدھانے والا، کجاوہ کے کنارے پر کچھ لٹکانے کیلئے میخ، گوشت وغیرہ لٹکانے کے لئے لوہے کا کنڈا۔ الکُلَّابَةُ: بمعنی کُلَّاب لیکن یہ اس سے خاص ہے۔ الکَلِیْبُ: کتوں کا جھنڈ۔ الکَلِیْبُ ج کَلْبٰی: کتے کے کاٹنے سے دیوانہ۔ المُکَلَّبُ (مفع): زنجیر پڑا ہوا قیدی۔ کِلَابٌ مُکَلَّبَةٌ: سدھے ہوئے کتے۔ المُکَلِّبُ: کتوں کو سدھانے والا، شکار پکڑنے والا جانور۔ المُکَالِبُ: دلیر۔ اَرْضٌ مُکْلَبَةٌ: بہت کتوں والی زمین۔

۲۔ الکَلْبُ: ٹیلہ کا کنارا، وادی کے پانی کی پہلی زیادتی۔ ـــــ من الفرسِ: گھوڑے کی پیٹھ کی دھاری، کہا جاتا ہے۔ اِسْتَوٰی عَلٰی کَلْبِ فَرَسِهٖ: وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر جم کے بیٹھ گیا۔ الکُلْبَةُ: شراب فروش کی دکان۔

○ کلاسیکی: کلاسک، کلاسیکل، قدیم تمدن یا ادب کا، مستند، معیاری، یونانی اور رومی طرز کا، کَلَاکُس جمع کَلَاکُسَات: ہارن، بھونپو۔

○ کَلِبَ ـَ کَلَبًا: پاگل ہو جانا، پانی سے خوف کے مرض میں مبتلا ہونا۔ ـــــ علی: کی للچا کر خواہش کرنا، کا حریص

ہونا۔ تکالَبَ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا، ایک دوسرے کی طرف دوڑنا۔ ـــ علی: پر حملہ کرنا، جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا۔ ـــ بہت زوروں کا ہونا، سخت تیز ہونا۔ اِستَکلَبَ: بہت زوروں کا ہونا، سخت تیز ہونا، گھن گرج والا ہونا، سگ گزیدہ ہونا، پاگل ہونا، از خودرفتہ ہونا، مخبوط ہونا۔ کَلبِی: کتوں سے متعلق، کلبی۔ کَلِب: باؤلے پن سے متاثر پاگل، سگ گزیدہ، حریص۔ کَلَب: ہڑک، باؤلے کتے کے کاٹنے سے دیوانگی، پانی سے خوف، سخت پیاس۔ ـــ علی: کی حرص۔ کُلّاب و کُلُّوب جمع کلالیب: ہک، سنڈاسی۔ کُلّابَة جمع کُلّابات: سنسی، چمٹا، چمٹی۔ کَلِیب جمع کَلبَی: سگ زدہ، بہت زوروں کا۔ تکالُب: شدید جنگ، لڑائی، طیارہ جھڑپ، بلوہ، گڑبڑ، دنگا، لالچ، حرص۔ مَکلُوب: سگ زدہ، پاگل، دیوانہ۔ کَلبَتَین: ہتھکڑیاں، بیڑیاں۔

کلت: ۱۔ کَلَتَ ـِ کَلتًا الشیئَ: کو جمع کرنا۔ الفرسَ: گھوڑے کو دوڑانا کہا جاتا ہے۔ اِنَّہُ لَکُلَتَةٌ فُلَتَةٌ کُفَتَةٌ: وہ گھوڑا بہت اچھلنے کودنے والا ہے سوار نہیں ہونے دیتا۔ ـــ ہ فی الاناء: کو برتن میں انڈیلنا۔ ـــ بہ: کو پھینکنا۔ انکَلَتَ۔ الماءُ: پانی ڈالا جانا۔ ـــ الرجلُ: منقبض ہونا۔ اِکتَلَتَ الماءَ: پانی پینا۔ الکُلتَة: کھانے کا حصہ۔

۲۔ الکَلِیتُ و الکِلِیتُ: لمبا پتھر جس سے بجو کے بھٹ کو بند کیا جائے۔

۳۔ کَلتَبَ کَلتَبَةً فی اُمُورِہ: معاملہ میں مداہنت برتنا۔ الکَلتَبُ و الکُلتُبُ: معاملات میں مداہنت برتنے والا۔

کلثم: کَلثَمَ کَلثَمَةً لحمُ الوجہ: بلا ترش روئی کے چہرے کا گوشت سمٹنا۔ الکُلثُوم: چہرے اور رخساروں پر زیادہ گوشت والا۔ جھنڈے کے سر پر ریشم کا ٹکڑا۔

کلج: الکَلَج: بہادری۔ الکُلُج: قوی مرد۔ (جمع)

کلح: کَلَحَ ـَ کُلُوحًا و کُلاحًا وجهُهُ: تیوری چڑھا ہوا ہونا صفت کَالِحٌ، کہا جاتا ہے۔ کَلَحَ فِی وَجهِ الصَّبِیِّ او المَجنُونِ: بچے یا مجنون کو گھبراہٹ میں ڈالنا۔ کَلَّحَ وجهَهُ: کو ترش رو بنانا۔ کَالَحَ فلانًا: سے قوت میں مقابلہ کرنا، باہم سختی کرنا ـــ القمرُ: چاند کا بادل میں چھپنا۔ اَکلَحَ وجهَهُ: تیوری چڑھا ہوا ہونا۔ ـــ وجهه: تیوری چڑھانا۔ تکلَّحَ البرقُ: بجلی کا لگاتار چمکنا۔ ـــ الوجهُ: تیوری چڑھا ہوا ہونا۔ ـــ الرجلُ: مسکرانا۔ اَکلَوَّحَ وجهُهُ: تیوری چڑھانے میں دانت نکالنا، کہا جاتا ہے دَهرٌ کُلاحٌ: سخت اور تنگی کا زمانہ۔ کَلاح: مثل برکسرہ: قحط زدہ سال۔ الکَلحَة: منہ اور اس کا ارد گرد۔ الکَالِحُ (فا) وہ شخص جس کے ہونٹ کھلے ہوئے ہوں، کہا جاتا ہے۔ دَهرٌ اَو شِتَاءٌ کَالِحٌ: سخت زمانہ یا سخت تکلیف۔ الکَولَح: قبیح۔

کَلخ ـــ کُلاخًا و کُلُوخًا: تیوری چڑھانا، کڑے تیوروں سے دیکھنا، اداس نظر آنا۔ اَکلَخ و تَکلَّخ: بمعنی بالا۔ کَلخَة: منہ کے ارد گرد کی جگہ، وضع قطع، چال ڈھال، چہرے کا اتار چڑھاؤ۔ کَالِخ: سنجیدہ، اداس، مرجھایا ہوا، سوکھا پھیکا، بے رنگ، ہلکا بھورا۔

کلد: ۱۔ کَلَدَ ـِ کَلدًا و کَلَدَ الشیئَ: کو تہ بتہ جمع کرنا۔ تَکَلَّدَ الرجلُ: موٹے گوشت والا ہونا، قوی ہونا۔ الکَلَد: واحد۔ کَلَدَة: سخت زمینیں۔

۲۔ الاِکلِید: چابی (جیسے اقلید) (یونانیہ)۔

کلر کالوری او حُرَیرَة (ف): ایک گرام پانی گرم کرنے کے لئے حرارت کی ضروری مقدار ایک سنٹی گریڈ الکُلُور (ک): بسیط مادہ گلا گھونٹنے والی بو کی حامل ایک سبزی مائل زرد گیس تیز زہریلی گیس 1915ء کی جنگوں میں پہلی بار استعمال کی گئی۔ جراثیم کش مواد اور رنگ اور داغ دھبے دور کرنے والے محلولات بنانے میں شامل ہے۔ الکُلُورُو مِیسِیتِین: ٹائیفائڈ بخار کے علاج کے لئے استعمال ہونے والی دوا (یونانی ولاطینی)۔

کلز: کَلَزَ ـِ کَلزًا و کَلَزَ الشیئَ: کو جمع کرنا۔ اِکلَنزَ اِکلِنزَازًا البازی: باز کا سمٹ کر شکار پکڑنے کا ارادہ کرنا۔ الرجلُ: سکڑنا۔ الکِلِزُّ: مضبوط پٹھے والا مرد۔

کلس: ۱۔ کَلَّسَ البیت: پر گچ سے استر کاری کرنا۔ ـــ الشیئ: کو گچ کی مانند بنانا۔ تَکَلَّسَ: چونا یا گچ ہونا، چونے یا گچ کی مانند ہونا۔ الکِلس: چونا۔ الکَلّاس: چونے والا یا چونا بیچنے والا۔ الکَلسِیُوم: کیلشیم (Calcium)

۲۔ کَلَّسَ و تَکَلَّسَ من الماء: پانی سے سیراب ہونا۔

۳۔ کَلَّسَ عن قِرنِہ: بزدل ہونا اور مد مقابل سے بھاگنا۔ ـــ علیہ: پر حملہ کرنا۔ سیفٌ کَلّاسٌ: کاٹنے والی تلوار۔ المُتَکَلِّس: تیز دوڑنے والا۔

۴۔ الکُلسَة: سیاہی مائل، بھورا رنگ۔ الکَلسَة ج کَلسَات: جرابیں، اسے قَلشِین ج کَلاشِین بھی کہا جاتا ہے (عامیہ لاتنیہ)۔ الاَکلَس: سیاہی مائل بھورے رنگ کا۔

الانکَلِیس: (ح) ایک مچھلی جو سانپ کی مانند ہوتی ہے اور اس کو حَنکَلِیس بھی کہتے ہیں (یونانی لفظ) عربی میں اسے الجرّی کہتے ہیں)

۵۔ الکَلَاسِیکِیَّة یا الادب الکَلَاسِیکِی: لاطین اور یونان کے قدیم اور بڑے بڑے ادباء کے مقرر کردہ ادبی طریقوں کے مطابق مدرسی ادب کا دبستان۔

۶۔ کَلسَمَ: ادائے حقوق میں کاہلی کی وجہ سے تاخیر کرنا۔ ـــ الرجلُ: تیز جانا۔ الیہ: کا قصد کرنا۔

کلص: کَلصَمَ الرجلُ: بھاگنا۔ فرار ہونا۔

کَلخ: شاہ بادیان کَلخ: ایک چھتر دار پودے کلخ فارسی کارس (گوند) جس کی بو بہت گندی ہوتی ہے اور اسے تشنج وغیرہ کا دورہ روکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں، بلکہ اخراج بلغم اور پلستر کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

الکَلدان: کلدانی قوم کا (بابل کا) باشندہ۔ کَلدانی: (اسم وصفت) نجومی، منجم، جوتشی۔

کَلَّسَ ہ: پر چونے سے استر کاری کرنا، سفیدی کرنا۔ ہ: کو جلا کر چونا بنانا، چونے کی تہہ جما کر پتھر بنا دینا۔ کِلس: چونا۔ کِلسِی: چونے کا۔ حجارة کلسية: چونے کا پتھر۔ کَلّاسَة: چونے کی بھٹی۔ مُکَلَّس: چونا بنایا ہوا۔ چونے کا پتھر بنایا ہوا۔ کَلسَة جمع کَلسَات: جراب موزہ، پائتابہ۔ کَلسُون جمع کَلسُونات: تنگ مہری کا پاجامہ جو پتلون کے نیچے پہنا جاتا ہے۔

کُلَیسِطَة جمع کَلَاسِط: بمعنی کَلسَة۔

کلع: ۱۔ کَلِعَ ـَ کَلَعًا الوسخُ علی رأسه او فی رأسه: سر پر میل کا خشک ہونا۔ کَلِعَ ـَ کَلَعَاتْ قَدَمُهُ: قدم کا میلا ہونا اور پھٹنا۔ ـــ الوسخُ علی رأسه او فی رأسه: کے سر پر میل کا خشک ہونا۔ ـــ رأسُهُ: سر کا میلا ہونا۔ ـــ ت قوائمُ الدابَّةِ: چوپائے کی ٹانگوں میں سخت خارش ہونا۔ کَلِعَ کَلَعًا و کُلَاعًا البعیرُ: پھٹے ہوئے کھر والا ہونا۔ اَکلَعَهُ الوسخُ: پر میل کچیل کا تہ بتہ جمنا۔ تَکَلَّعَ القومُ: جمع ہونا اور باہم قسم کھانا۔ الکَلَع: بوائی، پاؤں کی پھٹن اور میل الکَلِع مونث کَلِعَة: بوائی والا۔ جس شخص یا چیز پر میل جم گیا ہو، کہا جاتا ہے ہُوَ اَسوَدُ کَلِعٌ: یعنی وہ میل سے کالا ہے۔ الکُلَعَة: ایک مرض جو اونٹ کے پچھلے حصہ میں ہوتا ہے۔ الکَلَعَة: بکریوں کے ریوڑ کا ایک حصہ، بہت سی بکریاں۔ الکَولَع: میل، کچیل۔

۲۔ الکَلِعُ ج کَلِعَة: مردبد، فرومایہ۔ الکِلاع: سختی شدائد میں صبر، مواقع جنگ

کلف: کَلِفَ ـَ کَلَفًا الوجهُ: چہرے کا چھائیوں والا ہونا، چہرے پر سیاہیاں پڑ جانا۔ صفت اَکلَفُ مونث کَلفَاءُ۔ اِکلَافَّ اِکلِیفَافًا: چھائیں کے رنگ کا

ہونا۔ الکَلَفُ: سیاہی زردی مائل، جھائیں۔ الکُلْفَۃُ: جھائیں کا رنگ۔ الکَلْفَاءُ مونث اَکْلَفُ کی: تیز سرخ شراب جو سیاہی مائل ہو۔ سرخ سیاہی مائل شراب کا مٹکا۔

۲۔ کَلِفَ ـَ کَلَفًا بہ: کا عاشق زار ہونا۔ صفت کَلِفٌ۔ ـ الامرَ: کو مشقت پر برانگیختہ کرنا۔ کَلَّفَ ہٗ: کو دشوار کام کا حکم دینا۔ اَکْلَفَ ہٗ بکذا: کو کا عاشق زار بنانا۔ تَکَلَّفَ الامرَ: دشوار کام برداشت کرنا۔ تکلف کرنا۔ الکَلِفُ: عاشق زار۔ الکَلَفُ: کسی چیز کی محبت اور دل کی مشغولیت اور مشقت۔ الکُلْفَۃُ: مشقت، رنج، سختی، کسی مصیبت یا حق کے بارے میں جو رنج تمہیں لاحق ہو۔ الکَلَافَۃ: سخت محبت، اشتیاق۔ التَّکْلِفَۃُ ج تَکَالِیْفُ: مشقت، شاعر کا کہنا ہے سَئِمْتُ تَکَالِیْفَ الْحَیَاۃِ: میں زندگی کی مشقتوں سے تنگ آگیا ہوں۔ الکَلُوْفُ: دشوار امر۔ المُکَلَّفُ والمُتَکَلِّفُ: لایعنی امور میں پڑنے والا۔

کلک: ۱۔ الکَلَکُ ج کَلَکَاتٌ: عراق کے دریاؤں میں چلائی جانے والی کشتی جسے طوف بھی کہا جاتا ہے۔ (فارسیہ)۔

○ کَلِفَ ـَ کَلَفًا: چہرے کا سرخ سانولے رنگ کا ہو جانا، چہرے پر چھائیاں پڑنا۔ ـ ب: کو پسند کرنا۔ ـ ب: کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا، پر تلا ہوا ہونا، کا متمنی ہونا، خواہاں ہونا، آرزومند ہونا۔ ـ ب: سے بہت لگاؤ رکھنا، کا بہت شائق ہونا، کی محبت میں گرفتار ہو جانا۔ کَلَّفَ ہ/ب: کو کچھ تفویض کرنا، کے سپرد کوئی کام کرنا۔ ـ ہ ہ: کو کچھ مہنگا پڑنا، پر خرچ کرنا۔ کَلَّفَ خاطِرَہٗ: زحمت اٹھانا۔ کَلَّفَہٗ شَطَطًا: سے بہت کی توقع کرنا یا مطالبہ کرنا۔ کَلَّفَ نفسَہٗ عَنَاءَ (مؤونۃ یا مشقّۃ): کی زحمت اٹھانا، ناک میں دم آنا۔ کَلَّفَہٗ ثمنًا باھظًا: کو بھاری قیمت ادا کرنا۔ مَھْمَا کَلَّفَہٗ الامرُ: ہر قیمت پر، کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ تکلّفَ ہ/ب: پر کا بوجھ پڑنا۔ ـ ہ: کوئی کام، خرچہ اٹھانا۔ ـ ہ: (اخراجات) برداشت کرنا پڑنا، (خرچ) ادا کرنا، چکانا، (کوئی کام) سنبھالنا۔ ـ ہ: کو بے دلی سے کرنا، کو بناوٹی انداز سے کرنا، میں تصنع کرنا، خود کو کچھ کرنے پر مجبور کرنا، کو مشکل سے کرنا مثلاً تَکَلَّفَ الضِّحْکَۃَ: زبردستی ہنسنا۔ ـ تصنع کرنا، غیر فطری ہونا، تصنع سے بھرا ہوا ہونا، سرد مہرانہ ہونا، پرتکلف ہونا، رسمی ہونا، ظاہری ہونا تکلفات کا بہت پابند ہونا، تکلفات برتنا یا تکلفات سے کام لینا۔ ـ ہ علی: کوئی رقم کے لئے خرچ کرنا۔ ـ علی ہ: کو اتنا مہنگا پڑنا۔ کَلَف واحد کَلَفَۃ: چھائیاں۔ کَلَفُ الشمس: سورج کے داغ۔ کَلِفٌ ب: کا بہت عاشق، سے بہت لگاؤ رکھنے والا، کا بہت شائق۔ کُلْفَۃ جمع کُلَف: بےکلی، بےچینی، بےآرامی، تکلیف، تکلیف دہ (شخص، کام یا چیز)، تکلف، اداب، پر تکلفی، سرد مہرانہ رویہ، تصنع، بناوٹ، راہ و رسم کی پابندی، انداز، اخراجات، مصارف، لوازمات (بٹن، بکسوئے، ڈوریاں، فیتے، تسمے وغیرہ)۔ الکَلَفُ الشَّمْسِیَّۃ: سورج کے داغ۔ کَلَّاف: سائیس۔ کَلَافِی: گدھوں کو کرائے پر دینے والا۔ اَکْلَف، مونث کَلْفَاء جمع کُلْف: بھورا سرخ، چھائیاں پڑا ہوا، داغ دار۔ تکلیف جمع تکالیف: بوجھ ڈالنا، دق کرنا، جان کھانا، پریشان کرنا، تکلیف دینا، آرام میں خلل ڈالنا، سپرد کرنا، اختیار دینا، سونپنا، ذمہ داری عائد کرنا، مطالبہ کرنا، جواز، اختیار، اجازت، اللہ تعالیٰ کا حکم، بار، بوجھ، ناراضی، زحمت، وبال جان، ہنگامہ، دردسری، جھنجھٹ، طور طریقہ، خوش اخلاقی کا تکلف، اخراجات، مصارف، ٹیکس، محصولات، محاصل، ٹیکس کا بوجھ، قانونی گنجائش۔ بلا تکلیف: بےتکلفانہ، بےتکلفانہ طور پر۔ کشف التکلیف: کھیوٹ، خسرہ (پٹواری کا کھاتہ)۔ تکالیف المعیشۃ: مصارف زندگی۔ تَکَلُّف: دباؤ، مجبوری، پابندی، راہ و رسم کی پابندی، تصنع، باوٹ، مکاری، منافقت۔ مُکَلَّفٌ ب: کا اختیار دیا ہوا، کی اجازت دیا ہوا، کا مجاز، کا مختار جسے کچھ تفویض کیا گیا ہو، کا پابند، کا مستوجب، کے لئے ذمہ دار، پر مجبور۔ ـ ٹیکس کی زد میں آنے والا، ٹیکس ادا کرنے والا، دینی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا پابند، قانونی طور پر لائق، صحیح الدماغ۔ مُکَلَّفٌ بالشؤون: مدارالمہام، ناظم الامور۔ مُتَکَلَّف: رسمی، پرتکلف، پابند رسوم، زبردستی کا، ظاہری، بناوٹی، مصنوعی۔ ضحکۃ متکلفۃ: زبردستی کی ہنسی۔

○ کَلَک جمع کَلَکات: ہوا بھری مشکوں کا بیڑا۔

○ کَلْکَتّا: کلکتہ (ہندوستان کے ایک شہر کا نام)

○ کَلَاکیع العظام: ہڈی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے یا حصے۔

۲۔ الکَلْکَلُ ج کَلَاکِلُ (ع ا): سینہ یا ہنسلی کی ہڈیوں کے درمیان کا حصہ۔ ـ من الفرس: بیٹھنے کی حالت میں گھوڑے کے سینہ کا جتنا حصہ زمین پر لگے۔ الکلاکل: جماعتیں۔ الکُلْکُلُ مونث کُلْکُلَۃ، والکُلَاکِلُ مونث کُلَاکِلَۃ: گٹھے بدن کا پستہ قد مرد۔ الکَلْکَال (ع ا): سینہ۔

○ کَلْکَلَ و تَکَلْکَلَ: کھال کا کمزور ہونا، جلد کا سخت ہونا۔ تحتَ کَلْکَلِہ و تحتَ کَلَاکِلِہ: کے مار ڈالنے والے بوجھ کے نیچے۔ ناءَ بکلکلہ: کو سختی سے کچلنا، کے دل پر بھاری بوجھ ہونا۔ کَلْکَلَۃ: جلد کی سختی یا موٹاپا۔ مُکَلْکَل: کمزور کھال، سخت (جلد)۔

کلم: ۱۔ کَلَمَ ـِ کَلْمًا ہٗ: کو زخمی کرنا کہا جاتا ہے۔ ھٰذا مِمَّا یَکْلِمُ العِرْضَ والعَینَ: یہ ان چیزوں میں سے ہے جو آنکھ اور آبرو کو زخم لگائے۔ کَلَّمَ تَکْلِیْمًا ہٗ: کو زخمی کرنا۔ الکَلْمُ (مص) جمع کُلُوم و کِلَام: زخم۔ الکَلِیْم جمع کَلْمٰی: زخمی مجروح۔

۲۔ کَلَّمَ تَکْلِیْمًا و کِلَّامًا ہٗ: سے بات چیت کرنا۔ کَالَمَ مُکَالَمَۃً ہٗ: سے گفتگو کرنا۔ تَکَالَمَ الرجلان: جدائی کے بعد باہم گفتگو کرنا کہا جاتا ہے۔ کانا مُتَصَارِمَیْنِ فاصبحا یَتَکَالَمَان: دونوں ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے تھے۔ گفتگو کرنے لگے۔ تَکَلَّمَ تَکَلُّمًا و تِکِلَّامًا الرجلُ کلمۃً و بکلمۃٍ: بات کہنا۔ الکَلِمَۃُ ج کَلِمٌ و الکَلْمَۃُ ج کَلْمَاتٌ: لفظ، مفرد یا مرکب جو انسان بولے۔ الکِلْمَۃُ ج کِلَمٌ و کِلْمَاتٌ: کلمہ۔ ـ کَلِمَۃُ التَّقْوٰی: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔

العَشْرُ الکَلِمَاتُ: اللہ تعالیٰ کے دس احکام جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئے تھے۔ الکَلِمَۃُ اور کَلِمَۃُ اللّٰہِ: سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب، کلمہ کا اطلاق خطبہ اور قصیدہ پر بھی ہوتا ہے۔ الکَلَامُ: قول، گفتگو۔ عِلْمُ الکَلَامِ: یہ ان مدوّن علوم شرعیہ میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ، اس کی صفات اور قانون اسلام میں مبدأ و معاد میں ممکنات کے احوال کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ الکَلْمَانِیُّ و الکَلَمَانِیُّ و الکِلِمَانِیُّ و الکِلِمَّانِیُّ: ان سب میں تاء لگانے سے مونث کا صیغہ ہو جائیگا: فصیح اور عمدہ گفتگو کرنے والا، بہت بولنے والا۔

رَجُلٌ تِکْلَامٌ و تِکِلَّامٌ و تِکْلَامَۃٌ و تِکِلَّامَۃٌ: عمدہ اور فصیح گفتگو کرنے والا۔ الکَلِیْمُ ج کُلَمَاءُ: تمہارا ہم کلام۔ کَلِیْمُ اللّٰہِ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب۔ رَجُلٌ کِلِّیْمٌ: بہت بولنے والا۔ المُتَکَلِّمُ (فا): علم الکلام کا ماہر۔ المُتَکَلَّمُ: گفتگو کی جگہ، آپ کہیں گے، مَا اَجِدُ مُتَکَلَّمًا: یعنی میں گفتگو کی جگہ نہیں پاتا ہوں۔

۳۔ الکُلَامُ: سخت زمین۔

○ کَلَّمَ ہٗ: سے مخاطب ہونا، سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا۔ تکالمَ ہ: سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، سے باتیں کرنا۔ تَکَلَّمَ مع عن/علی: کے ساتھ کے

متعلق بات چیت کرنا۔ ـــــہ/ب: کچھ کہنا، بولنا۔

کَلْم جمع کُلُوم و کِلام: زخم، چرکا، خراش، گھاؤ۔

کَلِمَة جمع کلمات: لفظ، تکلم، تقریر، خطاب، اظہار، قول، رائے، گفتگو، مقولہ، کہاوت، دانشمندوں کا قول، مختصر اعلان، چند تعارفی یا ابتدائی کلمات، مختصر رسالہ (جو کسی خاص موضوع پر لکھا جائے) اہمیت، وزن، اثر، سند، غلبہ، طاقتور حیثیت۔کلمةً فکلمةً: لفظ بلفظ، لفظی، لغوی معنی میں، حقیقی معنی میں۔بکلمة اُخرَی: دوسرے لفظوں میں۔اَلْقَی کلمةً: تقریر کرنا، خطاب کرنا۔لِی کلمةٌ معك: مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔جمعوا کلمتهم علی: انہوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ۔ وہ پر متفق تھے۔ اجتمعت کلمتُهم: انہوں نے مل کر کام کیا، وہ متحد ہو گئے۔اجتمعت کلمتُهم علی: وہ متفق تھے کہ۔ جمعُ الکلمة یا توحید الکلمة: اتحاد، کامل اتفاق رائے۔اتحادُ الکلمة: ہم آہنگی، اتفاق، اتحاد۔تقسیمُ الکلمة: نااتفاقی، ان بن، نزاع، اختلاف رائے، پھوٹ، ناچاقی۔اَعْلَی کلمتَهُ: کا وقار بلند کرنا۔عُلُو الکلمة و الکلمةُ العُلْیا: برتری، تفوق۔قَالَ کلمتَه: اس نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اس نے اپنی بات کہہ دی۔کلمةُ اللّٰه: خدا کا ارشاد، الہامی کتابیں۔کلمةُ المرور: شناختی لفظ، پہرے کا لفظ، (کسی پارٹی کا) نعرہ، قیدی کا نہ بھاگنے کا قول۔الکلماتُ العَشر: شریعت موسوی میں دس خدائی احکام۔احکام عشرہ۔کلمة تَمهِیدیه: تمہید، دیباچہ۔کلمةُ السِرّ و کَلِمُ السّر: قیدی کا نہ بھاگنے کا قول، پہرے کا لفظ، توثیقی دستخط۔کلام: کہنا، بولنا، گفتگو، تقریر، زبان، انداز اظہار، اسلوب بیان، بات، بات چیت، بحث، مباحثہ، مناقشہ، قیل و قال، لفظ، الفاظ، قول، مقولہ، بیان، اظہار خیال، ضرب المثل، کہاوت، بولی، محاورہ، جملہ، فقرہ۔بالکلام: زبانی۔فَتَحَ فمه بالکلام: کچھ کہنے کے لئے منہ کھولنا، کچھ کہنے کے لئے تیار ہونا۔کلامٌ فارغٌ: طفلانہ گفتگو، بیہودہ گفتگو، بے معنی باتیں۔طریقة الکلام: بولنے کا انداز، بندش الفاظ۔علمُ الکلام: علم کلام۔ کثیر الکلام: باتونی، بکواسی، بڑبڑیا۔لغة الکلام: عام بول چال کی زبان، عامیہ بول چال، غیر ادبی زبان، روزمرہ کی بول چال۔مُشادة کلامیة: لفظوں کی جنگ، بحث۔لڑائی کلامی: لفظوں یا بولی کا یا ان کے متعلق، زبانی، تعلیمی، مدرسی، دینیاتی۔کَلِیم جمع کَلْمَی: زخمی۔جمع کُلَماء: شخص مخاطب بولنے والا، ترجمان، نمائندہ، (کسی کی طرف سے) بولنے والا۔

کَلُمانی و کَلَمانی و کِلِّمانی: فصیح، خوش اسلوب، یا زبان میں روانی والا رداء سے بولنے والا۔

تَکَلُّم: بولنا، کہنا بات گفتگو، بات چیت۔تقریر۔

مُتَکَلِّم: بولنے والا، ترجمان، متکلم، عالم دین، ماہر دینیات، مسلم متکلم، علم کلام سے متعلق۔

کلی: ۱۔کَلَی یَکْلِی کَلْیًا الرجُلَ: کے گردے پر لگنا اور اسے تکلیف دینا صفت مفعولی مَکْلِیٌّ۔ کَلِیَ ـــَ کَلًی: کے گردے پر لگنا اور تکلیف دہ ہونا۔کُلِیَ: درد گردہ میں مبتلا ہونا۔اِکْتَلَی: کے گردے پر لگنا۔ ہُ: کے گردے پر مارنا۔الکُلْوَةُ ج کُلًی و کُلُوَاتٌ (ع ا): گردہ۔الکُلْیَةُ ج کُلًی و کُلْیَاتٌ (ع ا): اس کا تثنیہ۔کُلْیَتَیْنِ: گردہ۔ من القوس: کمان کے قبضہ سے تین بالشت۔ من السحاب: بادل کا نیچے کا حصہ۔الکُلَی من الطیر: پرندہ کے بازو کے چار پر۔کُلَی الوَادِیْ: وادی کے اطراف و جوانب، کہا جاتا ہے۔غَنَمٌ حَمْراءُ الکُلَی: دبلی پتلی بکریاں، اور کہا جاتا ہے۔لقیتة بشحم کلاه: میں نے اس سے آغاز جوانی اور ایام نشاط میں ملاقات کی۔الکَلِیُّ: درد گردہ والا۔

۲۔کَلَّی تَکْلِیَةً: چھپنے کی جگہ میں آنا۔

۳۔اِکْلَوْلَی اِکْلِیْلاءً: شکست کھانا۔

۴۔کِلَا و کِلْتَا: یہ دونوں اسم لفظاً مفرد اور معنی مثنّی ہیں اور کلا سے مذکر کی اور کِلْتَا سے مونث کی تاکید ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ ایسے کلمہ کی طرف اضافت ہوتی ہے جو معرفہ اور تثنیہ پر دلالت کرتا ہو اور جب اسم ظاہر کی طرف اضافت ہوتی ہے تو الف اپنی حالت پر باقی رہتا ہے اور اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ جیسے رَأَیْتُ کِلَا الرَّجُلَیْنِ و کِلْتَا الْمَرْأَتَیْنِ: اور جب ضمیر کی طرف اضافت ہو تو مثنّی جیسا اعراب ہوتا ہے جیسے: جَاءَ الرَّجُلَان کِلَاهُمَا و رَأَیْتُ الرَّجُلَیْنِ کِلَیْهِمَا و الْمَرْأتَیْنِ کِلْتَیْهِمَا: اور جب ضمیر ان کی طرف راجع ہو تو لفظ کی رعایت جائز ہے جیسے۔کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ اُکُلَهَا: اور زَیْدٌ و عَمْرٌو و کِلَاهُمَا قائمٌ اور یہی افصح ہے اور رعایت معنی جائز ہے جیسے کلاهما قَامَا و زیدٌ و عمرٌو کِلَاهُما قائمان: اور یہ کم ہے اور کِلَا هُمَا مُحِبٌّ لِصَاحِبِه: جیسی ترکیب میں رعایت لفظ متعین ہے اس لئے کہ معنی۔کُلٌّ مِنهُمَا کے ہیں۔

۵۔اِکْلِیْرُس: واحد کِلِیرِیکِیُّ ج اِکْلِیرِیکِیُّوْن: گرجا کے خادم جیسے شمامسة و قسوس و اساقفه (یونانی)

○ کُلْیَة و کُلْوَة جمع کُلًی و کلاوِی: گردہ۔کُلْوِی: گردوں کا یا گردوں سے متعلق۔التهاب کُلْوِی: ورم گردہ۔مَغَص کُلْوِی: درد گردہ۔

○ کِلِیم جمع کُلِمَة: گلیم، قالین، کمبل۔

کم: ۱۔کَمَّ ـــُ کَمًّا الشيءَ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔البعیرَ: اونٹ کے منہ پر تھوتھنی چڑھانا۔الناسُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔کُمَّ کَمًّا و کُمُومًا ت النخلةُ: کھجور کے درخت میں شگوفہ آنا صفت مَکْمُومٌ۔ کَمَّمَ و اَکَمَّ القمیصَ: کرتے میں آستین لگانا۔ ـــ ت النخلةُ: کھجور کے درخت میں شگوفہ آنا۔ تَکَمَّمَ بثیابه: کپڑے اوڑھنا۔ ہ: کو بند کرنا۔ لپیٹنا۔تَکَمَّمَ القومُ: مدہوش ہونا، ڈھانکا جانا۔ الکُمُّ ج اَکْمَامٌ و کِمَمَةٌ: آستین۔الکِمُّ ج اَکِمَّةٌ و اَکْمَامٌ و کِمَامٌ و اَکَامِیمُ: غلاف شگوفہ اس سے ہے۔اَکْمَامُ الزَّرْعِ: کھیتی کا غلاف۔کِمَّةُ الخَیْلِ: واحد کِمَامٌ: توبڑہ۔الکُمَّةُ: گول ٹوپی، ڈھکنا۔الکِمَامُ: تھوتھنی جس سے جانور کے منہ کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ کھا اور کاٹ نہ سکے۔الکِمَامَةُ: توبڑہ، پھول کا غلاف، کھجور کے شگوفہ کا غلاف۔المِکَمَّةُ: تھوتھنی۔المَکْمُومُ (مفع) من النخل: کھجور کا وہ درخت جس میں غلاف شگوفہ نکل آئے۔

۲۔کَمْ: کَمْ: کی دو قسمیں ہیں۔(پہلی) استفہامیہ: یہ (کتنی تعداد) کے معنی دیتا ہے جیسے کَمْ دِرْهَمًا لَكَ: یعنی تمہارے کتنے درہم ہیں، کم استفہامیہ کا ممیز منصوب ہوتا ہے یہ کسی حال میں مجرور نہیں ہوتا۔ (دوسری) کم خبریه: یہ کثرت کا معنی دیتا ہے جیسے کَمْ عَبْدٍ اَوْ کَمْ عَبِیْدٍ مَلَکْتُ: میں بہت سے غلاموں کا مالک ہوں کم خبریه کا ممیز من کی تقدیر کے ساتھ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے جب اسے کَمْ سے جدا کر دیا جائے تو پھر یہ منصوب استعمال ہوتا ہے جیسے کَمْ لِیْ عَبْدًا۔الکَمُّ و الکَمِّیَّةُ: مقدار۔ الکَمِّیُّ مونث کَمِّیَّةٌ: کَمْ کی طرف منسوب۔

۳۔کَمْکَمَ کَمْکَمَةً الشيءَ: کو چھپانا۔ تَکَمْکَمَ: گول ٹوپی پہننا۔فی ثیابه: کپڑوں میں اپنے آپ کو ڈھانپنا۔الکُمْکُمُ مونث کُمْکُمَةٌ: پستہ قد۔گٹھے جسم والا۔

○ کَمْ: کم ولدًا لك: تمہارے کتنے بیٹے ہیں۔کَمْ مَرَّةً یا کَمْ مِن مَرَّةٍ: کتنی دفعہ۔ کتنی بار۔کَمْ بالحرِی؟: کس قدر اور۔بِکَمْ: کتنے میں۔نَظَرِیَّةُ

الکمّ: نظریہ مقادیرِ معینہ، مقداری نظریہ۔ کمّی: کمیتی، کیت کا۔ کمّیۃ جمع کمّیّات: مقدار، کمیت، تعداد، شمار، گنتی۔

○ کَمَّ ۔ کَمًّا ہ: جانور پر چھینکا چڑھانا۔ کمّ فمہٗ: کا منہ بند کرنا، کو خاموش کرنا۔ کمّم ہ: کی آواز کپڑا منہ ڈھ کر دبا دینا، کی زبان بندی کرنا۔ — ہ بندوق وغیرہ کا منہ کیل ٹھونک کر بند کرنا۔ کِمّ جمع اکمام و اکِمّۃ و کِمام و اکامیم: پھول کا کٹورا مسند گل۔ کِمامۃ جمع کِمامات و کمائم: چھینکا، منہ بند کرنے کا کپڑا، نقاب گیس ماسک (گیس نقاب) پھول کا کٹورا، مسند گل۔

کمأ: ۱۔ کَمَأ ۔ کَمْأً ہ: کو سانپ کی چھتری کھلانا۔ کَمِیَ ۔ کَمًا: پوشیدہ ہونا۔ — عن الاخبار: سے ناواقف ہونا، بے خبر ہونا۔ — ت یدہٗ من البرد او العمل: ہاتھ کا سردی یا کام سے پھٹنا۔ اَکْمَأ اِکْمَاءً المکانُ: جگہ کا بہت سانپ کی چھتری والا ہونا۔ — الرجلُ: کو سانپ کی چھتری کھلانا۔ تکمّأت علیہ الارضُ: کو زمین کا پوشیدہ کرنا، کہا جاتا ہے۔ خرج الناسُ یتکمّؤون: یعنی لوگ سانپ کی چھتری چننے کے لئے نکلے۔ الکَمْءُ (مص) ج اَکْمُؤ و کَمْأۃ (ن): سانپ کی چھتری، اس کو شحم الارض بھی کہتے ہیں۔ الکمّاءُ: سانپ کی چھتری بیچنے والا۔ سانپ کی چھتری بیچنے کے لئے چننے والا۔ المَکْمَأۃ والمَکْمُؤۃ: سانپ کی چھتری کی جگہ۔

۲۔ اَکْمَأ اِکْمَاءً تِ السنُّ فلانًا: کو عمر کا بوڑھا کر دینا۔

۳۔ تکمّأ ہ: کو ناپسند کرنا۔

کمب: الکمبیالۃ (ت): ہنڈی، ڈرافٹ الکمبیو (ت): اولا بدلی، مبادلہ، مبادلہ زر، شرح مبادلہ۔

○ کَمْء، جمع اَکْمُؤ: ایک کھمبی جس کی جڑیں کھانے میں ملائی جاتی ہیں۔ کلاہ باران، ککرمتا، کھمبی، سانپ کی چھتری۔ کمأۃ (جمع) کھمبیاں۔

○ کَمان: وائلن۔ ولایتی سارنگی، چوتارہ، کمانجی: سارنگی نواز

○ کَمْب: کیمپ۔ کمبریت مہین سفید سوتی کپڑا یا رومال۔

کمت: ۱۔ کَمُتَ ۔ کُمْتًا و کُمَاتَۃً و کُمْتَۃً الفرسُ: گھوڑے کا کمیت ہونا۔ کمّت الثوبَ: کپڑے کو سیاہی مائل سرخ رنگنا۔ کمّت تکمیتًا الخمرَ والفرسَ وغیرھما: شراب اور گھوڑے وغیرہ کو کمیت بنایا جانا۔ اِکْمَتّ و اِکْمَاتّ الفرسُ: گھوڑے کا کمیت ہونا۔

الکُمْتَۃ: کیت رنگ۔ الکُمَیْتُ من الخیل ج کُمْتٌ (مذکر و مونث کے لئے) سرخ سیاہ رنگ والا گھوڑا اور یہ بر خلاف قیاس اَکْمَت کی تصغیر ہے۔ ایک شراب کا نام کیونکہ اس میں سیاہ اور سرخ رنگ پایا جاتا ہے کہا جاتا ہے۔ خَیْلٌ کُمَاتِیٌّ کمیت گھوڑے۔

۲۔ کَمَتَ ۔ کَمْتًا الغیظَ: غصہ کو دبانا۔

۳۔ الکُمَیْتَۃُ: جڑ، اصل، کہا جاتا ہے۔ اَخَذَہٗ بِکُمَیْتَتِہٖ یعنی اس نے اس کو مع جڑ کے لے لیا۔

۴۔ کَمْتَرَ: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔ — القربۃ: مشک کو بندھن سے باندھنا۔ — السقاءَ: مشک کو بھرنا۔ — القصیرُ: پستہ قد کا دوڑنا۔ الکُمْتُرُ و الکُمَاتِرُ: موٹا، پستہ قد، سخت مضبوط۔

○ کُمَیْت: سرخی مائل بھورا، بادامی قرمزی (رنگ)۔ (مذکر و مونث)

کمث: کَمْثَرَ الشیئُ: جمع ہونا اور بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ الکُمَاثِرُ: پستہ قد الکُمَّثْرٰی واحد کُمَّثْرَاۃ (ن) ناشپاتی۔

کمج: الکَمَجُ (ع ا) بُنِ ران۔ الکُماجُ واحد کُماجَۃ: عام روٹی کی نسبت زیادہ موٹی گول۔

کمح: کَمَحَ ۔ کَمْحًا الدابّۃَ: چوپایہ کو کھینچ کر ٹھہرانا۔ اَکْمَحَ الدابّۃَ: چوپایہ کو کھینچ کر ٹھہرانا۔ — الکرمُ: پتے نکالنے کے قریب ہونا اور خوشہ انگور نکلنے کی جگہ ظاہر ہونا۔ اَکْمَحَ الرجلُ: متکبر ہونا۔

کمخ: ۱۔ کَمَخَ ۔ کَمْخًا بانفہ: تکبر کرنا۔ — الفرسَ باللجام: گھوڑے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔ اَکْمَخَ الکرمُ: پتے نکالنے کے وقت خوشہ انگور نکلنے کی جگہ کا ظاہر ہونا۔ الکُمّاخ: تکبر، بڑا بننا۔

۲۔ الکامَخُ ج کَوامِخُ: سالن، بعض نے اسے سرکہ کی چٹنی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ (فارسیہ)۔ الکُمْخَۃ: برتن وغیرہ پر جمی ہوئی میل (عامیہ فارسیہ یا ترکیہ)۔

کمد: ۱۔ کَمَدَ ۔ کَمْدًا و کُمُودًا القصّارُ الثوبَ: دھوبی کا کپڑے کو کوٹنا اور اسم الکِمادُ ہے۔ کَمِدَ ۔ کَمَدًا: بدلے ہوئے رنگ والا ہونا۔ — الرجلُ: غم سے بیمار دل والا ہونا صفت کامِدٌ و کَمِدٌ کَمِیْدٌ۔ — الثوبُ: پرانا ہونے کی وجہ سے بدلے ہوئے رنگ والا ہونا۔ اَکْمَدَ الھمُّ فلانًا: غمگین کرنا، اداس کرنا دل کو بیمار کرنا۔ الکَمْدُ و الکَمَدُ و الکُمْدَۃُ: بدلا ہوا ہلکا، پھیکا، سیاہ یا صوفیانہ رنگ، افسردگی، دھندلا پن، سیاہ فامی، غم، سخت پریشانی۔ اَکْمَدُ اللون: بدلے ہوئے رنگ والا۔

۲۔ کَمَدَ و اَکْمَدَ العضوَ: عضو کی ٹکور کرنا صفت مفعولی مَکْمُودٌ۔ الکِمادُ: ٹکور کرنا، سینکنا — و الکِمادۃ: ٹکور کرنے کی پٹی

○ کَمْخا: ریشمی کپڑا، بیل، بوٹے دار کپڑا۔

○ کَمِدَ ۔ کَمَدًا: غمگین ہونا، رنجیدہ، مغموم، بیمار دل والا ہونا۔ (رنگ کا) دود آلود، سیاہ، پھیکا، ہلکا یا صوفیانہ ہونا، رنگ بدل جانا، یا خراب ہو جانا۔ اِسْتَکْمَدَ: رنگ کا دود آلود، سیاہ، پھیکا، ہلکا یا صوفیانہ ہو جانا۔ کَمِد و کَمِید غمگین، پریشان، دل کی بیماری میں مبتلا تاریک۔ اَکْمَد سیاہ رنگ کا، کالا، سیاہ فام۔ تَکْمِید: سینک، ٹکور۔ مُکَمَّد و مُکَمَّدۃ جمع مُکَمَّدات: ٹکور کرنے کی پٹی۔

کمر: ۱۔ الکَمَرُ (ب): ہر وہ عمارت جس میں محراب یعنی ڈاٹ ہو جیسے پل وغیرہ (فارسیہ)

۲۔ کَمَرَ ۔ ہٗ بالغطاءِ: کو چھپا لینا، ڈھانپ لینا تا کہ کچھ نظر نہ آئے (عامیہ) الکَمَرُ: بالوں کا حصہ (فارسیہ)

۳۔ الکُمْرُکُ او الجُمْرُکُ (ت) کسٹم، کسٹم کلیرنس آفس، کہتے ہیں۔ کُمْرُکُ البضاعۃِ و بضاعۃ مُکَمْرَکَۃ: کسٹم کا سامان۔ (فارسیہ اس کی عربی مَکْس ہے)۔

کمز: کَمَزَ ۔ کَمْزًا العجینَ ونحوَہٗ: گندھے ہوئے آٹے کو ہاتھوں سے گول بنانا۔ الکُمْزَۃُ ج کُمَزٌ: کھجور وغیرہ کا گچھا، ریت یا مٹی کا ٹیلہ۔

کمس: ۱۔ کَمَسَ ۔ کُمُوسًا: تیوری چڑھانا۔ الاکْمَسُ: جو دیکھ نہ سکتا ہو۔

۲۔ الکیموس (ك) معدی ترشہ (یونانیہ)

○ کَمَر جمع اکمار: بیلٹ کَمَر جمع کَمَرات: شہتیر، کڑی، کرین کا بازو جو چیزیں اٹھانے کے کام آتا ہے۔ کمرۃ حمّالۃ اور کمرۃ لحمیل قضبان الونش: (چلتی کرین کا) پل، شہتیر، مَکْمُور: قیمہ اور سبزیوں سے تیار کیا ہوا کھانا۔

○ کُمْرُکی: کسٹم سے متعلق، تامینی محصول کا یا تامینی محصول سے متعلق۔ (تامینی محصول ایسی درآمدات پر لگایا جاتا ہے جن سے ملک کی صنعت کی حفاظت مقصود ہو)۔

○ کُمْساری، جمع کمساریۃ: بسوں وغیرہ کا کنڈکٹر۔

کمش: ۱۔ کَمَشَ ۔ کَمْشًا الناقۃَ: اونٹنی کے تھن باندھنا تا کہ اس کا بچہ دودھ نہ پی سکے، عوامی زبان میں اسے کَمَشَہ کہتے ہیں۔ کَمَشَ مِنَ الشیئِ کَمْشَۃً اتنی چیز لینا جو ہاتھ میں آ جائے۔ کَمُشَ ۔ کَمَاشَۃً تِ المرأۃ: عورت کا چھوٹے پستان والی ہونا۔ اَکْمَشَ بالناقۃ: اونٹنی کے پورے تھن کو باندھ دینا۔ تکمّش

الجلدُ ونحوہ: سکڑنا۔ انکمشَ الثوبُ بعدالغسل: کپڑے کا دھلنے کے بعد سکڑنا، سمٹنا۔ ۔۔ علی نفسہ: سکڑنا منفرد ہونا۔ الکُمَشُ والکَمُوشُ والکَمِشۃُ والکَمِیشۃُ من الاناث: چھوٹے تھن یا پستان والی۔ الکَمَّاشۃُ لوہار کا اوزار جسے ان کی زبان میں سَنّی (سنسی) کہا جاتا ہے۔ الاکمَشُ ج کُمشٌ چھوٹے قدم والا۔

۲۔ کَمَشَ ۔ُ کَمْشًا الزادَ توشہ ختم ہونا۔ ۔۔ فلانًا بالسیف: تلوار سے کسی کے اعضاء کو کاٹنا۔ الاکمَشُ مؤنث کَمْشَاءُ ج کُمْشٌ: جو نہ دیکھ سکتا ہو۔

۳۔ کَمِشَ ۔َ کَمَشًا: پھرتیلا اور پکے ارادے والا۔ کَمُشَ ۔ُ کَمَاشَۃً: دلیر ہونا۔ ۔۔ و اکمَشَ فی السیر و نحوہ تیز چلنا۔ کَمَّشَ الحادی: حدی پڑھنے والے کا کوشش سے ہانکنا۔ ۔۔ فلانًا: سے جلدی کرانا۔ ۔ ذیلَہٗ کا دامن سمیٹنا۔ تکمَّشَ وانکمشَ الرجلُ: دوڑنا۔ الکَمْشُ والکَمِشُ والکَمِیشُ من الرجال: پھرتیلا، پکے ارادے والا، عربوں کی مثال ہے، کَمِیشُ الازارِ ازار سمیٹنے والا یعنی پھرتیلا۔

○ کَمَشَ ۔ُ کَمْشًا ہ کو مضبوطی سے پکڑنا، پکڑنا، گرفت میں لینا۔ تکمَّشَ جھریوں دار ہوجانا، شکن پڑنا، سکڑنا، سمٹنا، سکڑتے رہنا، دبک کر پیچھے ہٹنا۔ اِنکَمَشَ: جھریوں دار ہونا، شکن پڑنا، سکڑنا، سمٹنا، کسنا، مقید ہونا، محدود ہونا، دبک کر پیچھے ہٹنا، اپنے آپ میں منہمک یا مشغول ہوجانا۔ و علی نفسہ: اپنے خیالات مجتمع کرنا، اپنی طاقت مجتمع کرنا۔ کُمْشۃ: مٹھی بھر، کَمِش و کَمِیش: ماہر، کاریگر، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، کَمِیشُ الازار: بمعنی بالا (نیز) سرگرم، چست، پھرتیلا، محنتی، مستعدی سے کام کرنے والا، کارکن، لائق، قابل، اِنکماش: مشغولیت، دھن، انہماک، استغراق، محویت، اپنے آپ میں مشغولیت، مُنکمِش: سکڑا ہوا، اینٹھا ہوا، رگ چڑھا، مضبوطی سے پکڑا ہوا، اکڑا ہوا، منہمک۔ مشغول، کم آمیز، اپنے آپ میں مگن۔

کمع: ا۔ کَمَعَ ۔َ کَمْعًا فی الاناء: برتن میں منہ لگا کر پینا۔ ۔۔ فی الماء: پانی میں اترنا۔ اِکْتَمَعَ الاناءَ: برتن میں منہ لگا کر پینا۔

۲۔ کَمَعَ ۔۔ کَمْعًا قوائمَ الدابّۃِ: چوپایہ کی ٹانگیں کاٹنا۔ ۔۔ت الدابّۃُ: آہستہ چلنا۔ الکَمْعُ: ران کی گرہ۔

۳۔ کَامَعَ ہٗ: کو اپنے ساتھ ملانا، سے ہم بستری کرنا۔ الکَمْعُ: قبا، پست زمین، وادی کا گوشہ، اترنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ فُلانٌ فِی کِمْعِہٖ یعنی فلاں اپنے گھر اور اپنی جگہ میں ہے۔ والکَمِیعُ ہم بستری کرنے والا۔ المُکَامِعُ (فا): آپ کے قریب جس سے کوئی بات پوشیدہ نہ رہے۔

○ کَامَعَ ہٗ: کے ساتھ سونا، کو آغوش میں لینا، سے بغلگیر ہونا، کے ساتھ جنسی میل جول رکھنا، سے مباشرت کرنا۔ کَمِیع: ہمبستر، ساتھی۔

کمل: ا۔ کَمَلَ ۔ُ و کَمُلَ ۔ُ و کَمِلَ ۔َ کَمَالًا و کُمُولًا و تَکَمَّلَ و تکامَلَ و اِکْتَمَلَ: پورا ہونا، کامل ہونا۔ کَمَّلَ و اَکْمَلَ الشیءَ: کو پورا کرنا۔ ۔۔ و اِستَکْمَلَ الشیءَ: کو پورا کرنا۔ الکامِلُ (فا) ج کَمَلَۃٌ: جس کے اجزاء پورے ہوں جس کی صفات پوری ہوں، ناقص کی ضد، علم عروض کی ایک بحر کا نام ہے جس میں چھ مرتبہ مُتَفَاعِلُنْ آتا ہے۔ الکَمَلُ: کامل، پورا، کہا جاتا ہے۔ اَعْطَیْتُہُ المالَ کَمَلًا میں نے اس کو پورا مال دیا، یہ لفظ واحد اور جمع میں برابر ہے اور یہ نہ تو مصدر ہے اور نہ صفت اور یہ تمہارے قول۔ اَعْطَیْتُہُ المالَ کُلَّہٗ جیسا ہے۔ الکَمَالُ (مص): اسم مصدر ہے کہا جاتا ہے، لَکَ کَمَالُ الشیءِ: یعنی یہ ساری چیز تمہاری ہے۔ الکَمِیلُ: پورا، کامل۔ تَکْمِلَۃُ الشیءِ: جس سے کوئی چیز پوری کی جائے۔ المِکْمَلُ: خیر یا شر میں کامل مرد۔

۲۔ الکَامِیلِیَا (ن) ایک سدا بہار پودا گہوارہ استوائی ایشیا اور انڈونیشیا پتے چمکدار، پھول بڑے بڑے گلابی اور سرخ رنگ کے گرم ممالک اور بحرابیض متوسط کے علاقوں میں تزئین و آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے۔

○ کَمَلَ و کَمُلَ ۔ُ و کَمِلَ ۔َ کَمِلَ ۔َ کَمَالًا و کُمولًا: پورا ہونا یا ہوجانا، کامل ہونا، ختم ہونا، مکمل ہو جانا، انجام پذیر ہونا۔ کَمَّلَ و اَکْمَلَ ہ کو ختم کرنا، مکمل کرنا، پایہ تکمیل کو پہنچانا، بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا۔ کے نقائص دور کرنا، میں اضافہ کرنا، کو بڑھانا۔ تَکَامَلَ و اِکْتَمَلَ: پورا ہونا، کامل ہونا، تمام ہونا، مکمل ہونا، یا ہوجانا، ختم ہونا یا ہوجانا، بجالایا جانا، انجام کو پہنچنا، تکمیل کو پہنچنا، کمال کو پہنچنا، پختہ ہونا۔ اِسْتَکْمَلَ ہ کو مکمل کرنا، پورا کرنا۔ ہ میں اضافہ کرنا، کو بڑھانا۔ ہ شرط وغیرہ پوری کرنا، کَمَال جمع کَمَالَات: کمال، اعلیٰ درجہ کی خوبی، تکمیل، اختتام، اتمام، انجام، پختگی، انتہاء، بِکَمَالِہٖ مکمل طور پر، پوری طرح، سراسر، بالکل۔ کَمَالِی: پرتکلف، انتہائی آرام دہ، اعلیٰ خوبی والا، کَمَالِیَات: تکلفات کَمَالَۃ: اضافہ، تکملہ، ضمیمہ اَکْمَل: زیادہ مکمل، زیادہ کامل، لندن باکملہا: پورا لندن۔ تَکْمِیلِی: مکمل کرنے والا، ضمنی، انتخاب تکمیلی: ضمنی انتخاب۔ تَکْمِلَۃ: ضمیمہ، تکملہ تَکَامُل: انضمام، ادغام، ملا کر وحدت بنا دینا، حساب التکامل: حساب کلیات (IntegralCalculus) کَامِل جمع کَمَلَۃ: پورا، کامل، پکا، اصلی، خالص، کھرا، بے میل، پورے وزن کا، غیر محدود، پوری طاقت کا، مکمل، انجام کو پہنچا ہوا، ختم کیا ہوا، سب، سارا، تمام، جملہ، پورا کا پورا، سب کا سب، کل بِکَامِلِہٖ: تمام تر، یکسر، سب ملا کر، کل، بالکل، سراسر، پوری طرح، سارا مُتَکَامِل: پورا، کامل، پورے کا پورا، کلی۔

کمن: ا۔ کَمَنَ ۔ُ کُمُونًا: چھپنا، سمجھ میں نہ آنے والے کام میں دخل دینا۔ کَمِنَ ۔َ کُمُونًا: چھپنا، سمجھ میں نہ آنے والے کام میں دخل اندازی کرنا، کی آنکھ میں تاریکی ہونا۔ ۔۔ ت عینُہٗ: کی آنکھ کا تاریکی والی یا پلکوں میں ورم والی ہونا۔ کَمِنَ کُمُونًا آنکھ کا تاریکی یا پلکوں میں ورم والی ہونا۔ ۔۔ت عینُہٗ: کی آنکھ کا تاریکی یا پلکوں میں ورم والی ہونا۔ اَکْمَنَ الشیءَ: کو چھپانا۔ تَکَمَّنَ و اِکْتَمَنَ: چھپنا۔ الکُمْنَۃُ: آنکھ کی تاریکی یا پلکوں میں ورم، ایک بیماری جس سے آنکھ کی پلکیں سرخ ہوجاتی ہے۔ الکَمِینُ: گھات، مورچہ۔ ۔۔ ج کُمَنَاءُ بغیر سمجھے بوجھے کام میں دخل دینے والا، کہا جاتا ہے۔ ھٰذَا اَمْرٌ فِیہِ کَمِینٌ: اس معاملہ میں ایسا فساد ہے جو نا قابل سمجھ ہے۔ المَکْمَنُ ج مَکَامِنُ: چھپنے کی جگہ۔ المُکْتَمِنُ: غمگین۔

۲۔ الکَمُّونُ واحد کَمُّونَۃٌ (ن) زیرہ، (عبرانیہ)۔ الکَمُّونُ الحُلْوُ سونف، بادیان۔

۳۔ الکَمَنْجَۃ (مو) دو تارہ، سارنگی (فارسیہ)۔

○ کَمَنَ ۔ُ و کَمِنَ ۔َ کُمُونًا: چھپنا، چھپا ہوا ہونا، پوشیدہ، پنہاں، دبا ہوا، یا خوابیدہ ہونا۔ ۔۔ فی: میں کمین گاہ رکھنا۔ ۔۔ ل: کی گھات لگانا، کی گھات میں بیٹھنا، کو راستہ میں روکنا، کی رہزنی کرنا۔ تَکَمَّنَ ل: بمعنی کمن ل: کَمُّون: زیرہ۔ کَمُّون اسود: کالا زیرہ۔ کمون برّی: کالا زیرہ۔ کمون حُلْو: سونف، بادیان، تخم بادیان۔ کَمِین جمع کُمَنَاء: پوشیدہ، چھپا ہوا، گھات میں بیٹھا ہوا، کمین گاہ، خفیہ حملہ۔ دَبَّرَ کمینًا: خفیہ منصوبہ بنانا۔ نَصَبَ لَہٗ کَمِینًا: کے لئے جال بچھانا۔ مَکْمَن جمع مَکَامِن: جگہ جہاں کچھ چھپایا گیا ہو۔ کمین گاہ، چھپنے کی جگہ ھنا مکمنُ السرّ: یہی وہ جگہ ہے جہاں راز پنہاں ہے۔

کامِن: چھپا ہوا، پنہاں، دبا ہوا، خوابیدہ، خفیہ جمع کَوَامِن: پوشیدہ پس منظر، پنہاں گہرائیاں، بنیادی عوامل۔

کمہ: ا۔ کَمِہَ ۔ کَمَهًا: اندھا ہونا، تو ندی والا ہونا۔ ۔۔ بصرُہُ: تاریک ہونا اور بینائی کو نا پید کرنا۔ النهارُ: دن کا غبار والا ہونا۔ الرجُلُ کا رنگ بدلا ہوا ہونا۔ کی عقل زائل ہونا تمام معانی میں صفت اَکْمَہ مونث کَمْهَاءُ ج کُمْهٌ۔ تَکَمَّہَ فی الارض: زمین میں حیران پھرنا صفت کَامِہٌ و مُتَکَمِّہٌ: الاَکْمَہُ: اندھا، مادرزاد اندھا، کہا جاتا ہے۔ ذهبت اِبِلُهُ کُمَّهٰی: یعنی نہیں معلوم کہ اس کے اونٹ کہاں گئے۔ مُکَمَّہُ العَیْنَیْنِ: جس کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔

۲۔ کَمْهَلَ الرجُلُ: کپڑوں کو جمع کرنا اور سفر کے لئے باندھنا۔ ۔ المالَ: مال جمع کرنا۔ تَکَمْهَلَ الشيئُ: جمع ہونا۔ اِکْمَهَلَّ الرجُلُ: سمٹ کر بیٹھنا، سردی سے سکڑنا۔

۳۔ کَمْهَلَ علینا (ہمارا) حق روکنا۔ الحدیثَ کو پوشیدہ کرنا، معمہ جیسا کرنا۔

○ کَمَہ: (پیدائشی) اندھاپن۔ أَکْمَہ م کَمْهاء جمع کُمْہ: اندھا، پیدائشی اندھا۔

کمی: ا۔ کَمٰی یَکْمِی کَمْیًا شهادتَہُ وغیرَها کو چھپانا۔ وکَمَّی نفسَہُ: زرہ اور خود سے اپنے آپ کو چھپانا۔ اَکْمٰی شهادتَہُ وغیرَها کو چھپانا۔ ۔۔ المحاربُ: جنگجو کا لشکر کے زرہ پوش کو قتل کرنا۔ ۔ الرجُلُ منزلَہُ: مکان کو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھنا۔ تَکَمَّی الشیئُ: چھپنا۔ ۔ الشیئَ: کی حفاظت کرنا اور اسے چھپانا۔ ۔۔ ت الفتنةُ الناسَ: فتنہ کا لوگوں کو گھیر لینا۔ تُکُمِّیَ الجیشُ: لشکر کے دلاور یا زرہ پوش کا قتل کیا جانا۔ ۔ القومُ: مدہوش ہونا، گھیر لیا جانا۔ اِنکَمٰی پوشیدہ ہونا۔ اِکْتَمٰی اِکْتِمَاءً: چھپنا۔ الکَمِیُّ ج کُمَاۃٌ واَکْمَاۃٌ: بہادر، ہتھیار بند، زرہ پوش، بھید کا محافظ۔ المُتَکَمِّیُ: ہتھیار بند۔

۲۔ اَکْمٰی علی الامر کا پکا ارادہ کرنا۔

○ کَمیُون جمع کمیونات: ٹرک، لاری۔

کنّ: ا۔ کَنَّ ۔ کَنًّا و کُنُونًا الشیئَ: کو گھر میں چھپانا اور دھوپ سے بچانا۔ ۔۔ العلمَ وغیرَہُ فی نفسہ: کو دل میں چھپانا۔ فی اصطلاح العامة: ٹھہر جانا، کہتے ہیں۔ کَنَّتِ الرِّیحُ: ہوا تھم گئی۔ کَنَّنَ واَکَنَّ الشیئَ: کو گھر میں چھپانا۔ اور دھوپ سے بچانا۔ ۔۔ العلمَ وغیرَہُ فی نفسہ: کو دل میں چھپانا۔ تَکَنَّی تَکَنِّیًا: ہمیشہ گھر میں رہنا اس کی اصل تَکَنَّنَ ہے۔ اِکْتَنَّ الرجُلُ: چھپنا۔ ۔ الشیئَ کو چھپانا۔ ۔ ت المرأةُ: عورت کا شرم وحیاء سے منہ چھپانا۔ اِسْتَکَنَّ: چھپنا گھر کی طرف لوٹنا۔ الکِنُّ ج اَکْنَانٌ واَکِنَّةٌ: گھر، منزل، چیز کی حفاظت اور پوشیدگی۔ الکَنَّةُ ج کَنَائِنُ۔ کَنَّ کا اسم مرہ الکِنَّةُ: چیز کی حفاظت اور پوشیدگی۔ الکُنَّةُ ج کُنَّاتٌ وکِنَانٌ: الکَنِی الکُنّی، کوٹھڑی کے اندر چھوٹی کوٹھڑی، ڈھلوان چھت، سایہ بان، دیوار میں لگا ہوا تختہ الکِنَان جمع اَکِنَّة: چیز کو چھپانا اور اس کی حفاظت کرنا الکِنَانة ج کَنَائِنُ وکِنَانَاتٌ: ترکش، تیردان۔ الکَانُونُ والکَانُونَة: وہ بھاری بھرکم شخص جس کی صحبت سے پرہیز کیا جائے، وہ شخص جو بیٹھ کر اخبار و واقعات کا پتہ لگائے۔ ۔ ج کَوَانِینُ: انگیٹھی۔ ۔ کَانُونُ الاَوَّلُ وکَانُونُ الثَّانِی: رومی مہینے مطابق دسمبر وجنوری، بعض کے نزدیک، یہ رومی نہیں بلکہ سریانی ہیں اور اس سے مراد موسم سرما ہے اور بعض کے بقول یہ عربی الفاظ ماخوذ ہیں سخت سردی کے اور اس میں نقل وحرکت کی مشکل کا معنی دیتے ہیں۔ الکَنِینُ: چھپا ہوا۔ المُسْتَکِنَّةُ: کینہ۔

۲۔ اَکْتَنَّ الشیئُ: سفید ہونا۔ الکِنَّةُ: سفیدی۔

۳۔ الکَنَّةُ ج کَنَائِنُ: بہو یا بھاوج۔

۴۔ کَنْکَنَ: گھر میں بیٹھنا، سست ہونا، بھاگنا۔

○ کَنَّ ہ کو چھپانا، مخفی رکھنا، ڈھانپنا، بچانا، ۔۔ ہ ل کیلئے دل میں (دوستی) کو جگہ دینا۔ ۔۔۔ : ہوا کا مدہم پڑنا، تھمنا۔ کَنَّنَ ہ کو چھپانا، مخفی رکھنا، صیغہ، راز میں رکھنا، کو کم کرنا، ہلکا کرنا، اَکَنَّ ہ بمعنی کَنَّن ہ اِکْتَنَّ: چھپا ہونا، چھپایا ہوا ہونا۔ اِسْتَکَنَّ: چھپا ہونا، پناہ طلب کرنا، آرام سے لیٹنا، مدھم ہونا، تھمنا۔ کَنّ و کِنّ جمع اَکْنَان و اَکِنَّة: جگہ جہاں کوئی پناہ لئے ہوئے ہو، پناہ، گھونسلا، گھر، مکان، جھونپڑا، کنج، حجلہ۔ کِنَّة: پناہ گاہ، اوٹ، کُنَّة جمع کُنَّات و کِنَان: سائبان، شامیانہ، ڈھلوان چھت۔ کِنانۃ جمع کِنَانات و کَنَائِن: ترکش۔ ارض کِنَانَة و الکِنَانَة: مصر (کنانہ قبیلہ کی سرزمین) کانُون جمع کوانین: ولایتی، چولہا، سٹوو (Stove) کانون الاول: دسمبر (مہینہ) کانون الثانی: جنوری۔ کَنِین: چھپا ہوا، پوشیدہ، اچھی طرح محفوظ کیا ہوا۔ مَکْنُون: چھپا ہوا، پوشیدہ، اچھی طرح محفوظ، پوشیدہ محتویات۔

○ کَنَار: کنارہ، پہیے کا کنارہ، بارڈر، کنارا، گوٹ، مغزہ، سنجاف، کنی، کَنَارِی: کناری (جزائر کنیری کی زرد بلبل)۔

کنب: ا۔ کَنَبَ ۔ کُنُوبًا الرجُلُ: سخت ہونا، فقیری کے بعد مالدار ہونا۔ کَنَبَ ۔ کَنْبًا الشیئَ فی جرابہ: کو میں جمع کرنا، ذخیرہ کرنا۔

کَنِبَ ۔ کَنَبًا تِ الیدُ: ہاتھ کا کام کرنے سے سخت ہونا۔ اَکْنَبَ الشیئُ والیدُ: سخت ہونا۔ ۔ علیه بطنُہُ: کا پیٹ سخت ہونا۔ علیه لسانُہُ کی زبان رکنا۔ الکَانِبُ (فا): شکم سیر۔ الکَنَبُ (مص): کام کرنے سے ہاتھ کی سختی۔ الکِنَابُ خوشۂ خرما۔ الکَنِبُ: خشک درخت۔ المُکْنَبُ والمُکْنِبُ: کھودنے والا جس کے ہاتھ عمل کی وجہ سے سخت ہوگئے ہوں۔ المُکْنِبُ: سخت بدن والا، پستہ قد۔

۲۔ الکُنْبَةُ: ظالم خبیث۔

۳۔ کَنْبَثَ وتَکَنْبَثَ الرجُلُ: سکڑنا۔ رَجُلٌ کُنْبُثٌ وکُنَابِثٌ: مضبوط وقوی مرد، گٹھے بدن کا مرد۔ الکُنْبَاثُ (ن): ایک پودے کا نام الکِنْبَاثُ: گرنے والی ریت۔

۴۔ الکِنْبِرَةُ: ناک کا موٹا سرا۔

۵۔ تَکَنْبَشَ القومُ: خلط ملط ہونا۔ الکَنْبُوشُ والکُنْبُوشُ ج کَنَابِیشُ: عرق گیر (فارسیہ) منہ چھپانے کا برقعہ (فارسیہ)

کنت: ا۔ کَنَتَ ۔ کُنْتًا ۔ فی خَلْقِہ: جسمانی طور پر مضبوط ہونا، قوی ہونا۔ کَنِتَ ۔ کَنَتًا السقاءُ: مشک کا کھردرا اور سخت ہونا۔ سِقاء کَنِیتٌ: پانی روکنے والی مشک جس میں سے پانی نہ ٹپکے۔ الکُنْتِیُّ: قوی مضبوط۔

۲۔ اِکْتَنَتَ الرجُلُ: خضوع کرنا، راضی ہونا۔

۳۔ الکُونت: یورپ کے ممالک کا نواب یا راجہ لاطینی لفظ ہے۔ عرب انہیں قُمْط و کُنْد و قُمَّس و قُومس کہتے تھے۔

۴۔ الکُنْتَرَاتُو ج کُنْتَرَاتَات: دو فریقوں کے درمیان کسی معاملے پر مشروط معاہدہ۔ ایسے معاہدہ کی دستاویز (ایطالیہ)۔

کنث: کَنَثًا کَنْثَاۃً تِ اللِّحیةُ: داڑھی طویل اور گھنی ہونا۔ رَجُلٌ کَنْثَا اللحیة وکَنْثَاهَا: لمبی داڑھی والا مرد۔

کند: ا۔ کَنَدَ ۔ کُنُودًا النعمةَ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ الکُنُدُ (مذکر ومونث) ناشکرا۔ الکَنَّادُ: ناشکرا۔ الکَنُودُ (مذکر ومونث) ناشکرا، نافرمان، خدا کو ملامت کرنے والا، نعمتوں کو بھولنے اور مصائب کو یاد کرنے والا، بخیل۔ اَرْضٌ کَنُودٌ: بنجر زمین۔

۲۔ کَنَدَ ۔ کَنْدًا الشیئَ: کو کاٹنا۔ الکُنْدَةُ: پہاڑ کا ایک

ٹکڑا۔ الکَنَّادُ: بہت کاٹنے والا۔

۳۔ الکُنْدُرُ (ن): ایک خاردار درخت کا گوند، مضبوط بناوٹ والا، جمع کی صورت میں کہا جاتا ہے۔ فِتیانٌ کَنادِرَۃٌ: مضبوط بناوٹ کے نوجوان۔ الکَنْدُرَۃُ: باز کے بیٹھنے کی جگہ، سخت واونچی زمین۔ الکُنْدُرَۃُ: عورتوں کی جوتیوں کی ایک قسم (عامیہ ترکیہ)۔ الکُنْدُورُ (ح): جنوبی امریکا میں گدھ کی ایک قسم جس کا جسم بہت مضبوط اور بڑا ہوتا ہے۔ اسے فضا میں سب سے زیادہ پرواز کرنے والا پرندہ سمجھا جاتا ہے۔

کنر: الکُنَارُ: بیر (فارسیہ)۔ الکَنَارُ: (عامی فارسیہ) کپڑے کا کنارا، سمندر کا کنارا، ہر شیئ کا محیط۔ الکَنَارِیُّ (ح): جزائر خالدات یا جزائر کناریا کی ایک خوش الحان چڑیا زردی مائل رنگ کی اس چڑیا کے اگلے پر لمبے ہوتے ہیں۔ الکَنَارَۃ: کتان کے کپڑے کا ایک ٹکڑا (یونانیہ) ـــ و الکِنَارَۃُ ج کَنَائِر اور کِنَارات: بربط، ڈھول یا دف۔

○ کَنَب: جلد کی سختی کَنِب و مُکْنِب: سخت (کھال)

○ کَنَبَہ یا کَنَبِیَہ جمع کنبہات: صوفہ (Sofa)

○ الکُنْج: کونگو (ایک ملک کا نام)

○ کَنْجَرُو: کنگرو، مضبوط دم اور پچھلی ٹانگوں کا Kangaroo آسٹریلیا کا ایک بڑا جانور جو چھلانگتا ہوا چلتا ہے۔

○ کُنُود: ناسپاسی، ناشکر گزاری، احسان فراموشی، بے وفائی، نمک حرامی۔

○ کَنَدا: کینڈا (ایک ملک کا نام) کَنَدِی: کنڈا کا، کنیڈی۔

○ کُنْدُر: لوبان۔ کُنْدُرَۃ جمع کَنَادِر: (مغربی طرز کا) پاپوش۔

○ کُنْدُش: نیل کنٹھ کی قسم کا ایک یورپی پرندہ جو خوب بولتا ہے، بکواسی آدمی۔

کنز: کَنَزَ ـِ کَنْزًا المالَ: کو جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، زمین میں دفن کرنا۔ ـــ الرمحَ: نیزہ کو زمین میں گاڑنا۔ ـــ الشیئَ فی وعاءٍ او ارض: کو برتن یا زمین میں ہاتھ سے دبانا۔ السقاءَ: مشک بھرنا ـــ کَنَازًا و کِنَازًا التمرَ: کھجور کو موسم سرما کے لئے ذخیرہ کر کے رکھنا۔ تَکَنَّزَ لحمُہُ: کے گوشت کا اکٹھا ہونا اور سخت ہونا۔ اِکْتَنَزَ: بھرنا، جمع ہونا۔ ـــ اللحمُ: جمع ہونا، سخت ہونا۔ ـــ الشیئ فی الوعاءِ: کو برتن میں ہاتھ سے دبانا۔ الکَنْزُ ج کُنُوزٌ (مص): ہر ذخیرہ کی ہوئی قابل رشک چیز، زمین میں دفن کیا ہوا مال، جس میں مال محفوظ رکھا جائے مثلاً صندوق الماری وغیرہ کہا جاتا ہے۔ شَدَّ کنزَ القِربۃ یعنی مشک کو بھر دیا۔ رجل کَنِزُ اللحم: بہت اور سخت گوشت والا۔ الکَنَازُ: کھجور یا گندم ذخیرہ کرنے کا وقت۔ الکِنَازُ ج کُنُزٌ و کِنَازٌ: ٹھوس اور مضبوط گوشت والا، کہا جاتا ہے۔ جاریۃ او ناقۃ کناز: بہت اور ٹھوس گوشت والی لونڈی یا اونٹنی۔ الکَنَّازُ: مال کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الکَنِیزُ: کھجوریں جو سردی کے زمانہ کے لئے جمع کی جائیں کہا جاتا ہے۔ رجل کنیز اللحم: سخت اور بہت گوشت والا امرد۔ المَکْنَزُ ج مَکَانِزُ: جس میں ذخیرہ (جمع) کیا جائے۔ رَجُلٌ مکنوزُ اللحم: ٹھوس اور بہت گوشت والا۔ رجل مُکْتَنِزُ اللحم: ٹھوس اور مضبوط گوشت والا کہا جاتا ہے۔ کتابٌ مُکْتَنِزٌ بالفوائد: معلومات سے لبریز کتاب

○ کَنَزَ ـِ کنزاً فی الارض ہ: زمین میں (خزانہ) دفن کرنا۔ ـــ ہ: کوئی چیز ذخیرہ کرنا، سینت سینت کر رکھنا، کا ڈھیر لگانا، کو بچا کر رکھنا، جمع کرنا۔ اِکْتَنَزَ: مضبوط ہونا، کسا ہوا ہونا، موٹا تازہ، ہٹا کٹا، قوی ہیکل ہونا، لمبا ترنگا ہونا۔ ـــ ہ: روپیہ پیسہ جمع کرنا، دولت جمع کرنا، خزانہ جمع کرنا، (دولت، خزانہ) چھپانا۔ کَنْز جمع کُنُوز: خزانہ۔ کَنِز: مضبوط، کسا ہوا (گوشت)، موٹا تازہ، ہٹا کٹا، قوی ہیکل، لمبا ترنگا (جسم)۔ اِکْتِنَاز: جسم کا کسا ہوا، موٹا تازہ، ہٹا کٹا ہونا، سخت اور کسی ہوئی کاٹھی۔ مُکْتَنِز: سخت، کسا ہوا (گوشت)، ہٹا کٹا (جسم)، بھینچے ہوئے (ہونٹ)، مضبوط، چوڑا چکلا۔ مُکْتَنَز: انبار لگا، جمع کیا ہوا، چھپایا ہوا، دفن کیا ہوا۔

کنس: ۱۔ کَنَسَ ـُ کَنْسًا البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا کہا جاتا ہے۔ کَنَسَ فی وجہِ فلانٍ: اس نے فلاں سے مذاق کیا۔

کَنَسَ ـِ کُنُوسًا الظبیُ: ہرن کا جائے پناہ میں داخل ہو کر چھپ جانا۔ کَنَّسَ البیتَ: گھر میں جھاڑو دینا، کہا جاتا ہے۔ (مَرُّوا بہم فکنسوہم: وہ انکے پاس سے گزرے اور ان کی جڑ مٹا دی۔ تَکَنَّسَ الظبیُ: ہرن کا جائے پناہ میں داخل ہو کر چھپ جانا۔ ـــ الرجُلُ: خیمہ میں داخل ہونا۔ ـــ ت المرأۃُ: عورت کا ہودہ میں داخل ہونا۔ اِکْتَنَسَ تِ الظباءُ والبقرُ: ہرنیوں یا گائیوں کا جائے پناہ میں داخل ہونا۔ الکَانِسُ (فا) ج کُنَّسٌ و کُنُوسٌ و کَوَانِسُ: ہرن جو اپنی پناہ گاہ میں داخل ہو۔ الجواری الکُنَّس: ستارے یا نیل گائیں یا ہرنیاں۔ الکِنَاسُ ج اَکْنِسَۃٌ و کُنُسٌ: ہرن کے پناہ لینے کی جگہ۔ الکُنَاسَۃُ: کوڑا کرکٹ، کوڑا کرکٹ کی جگہ۔ الکَنَّاسُ: بھنگی، جھاڑو دینے والا۔ الکَنِیسُ: تو بڑا۔ المَکْنَسُ: ہرنیوں یا وحشی گائیوں کے گرمی سے بچنے کے لئے چھپنے کی جگہ۔ المِکْنَسَۃُ ج مَکَانِسُ: جھاڑو۔ المُکَانِسُ: ہمیشہ پناہ گاہ میں رہنے والا۔

۲۔ الکَنِیسُ: یہودیوں کی عبادت گاہ۔ الکَنِیسۃُ ج کَنَائِسُ عند النصارٰی: گرجا، اور نصارٰی اپنے مذہب کے مومنین پر بھی بولتے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ۔

○ الکَنَسَۃ: امام شافعیؒ کے مقبرہ میں علماء کی حاضری جہاں وہ گرد و غبار جھاڑتے ہیں۔ کَنِیس: یہودی معبد کَنِیسَہ جمع کَنَائِس: گرجا، یہودیوں کی اپنی مجلس، یہودی معبد مِکْنَسَہ جمع مَکَانِس: جھاڑو، جھاڑو دینے والی مشین۔ مِکْنَسَۃ کَہرَبائیۃ: گرد کش۔

○ مِکْنَاس و مِکناسَۃ: شمالی مراکش کے ایک شہر کا نام

کنش: کَنَشَ ـُ کَنْشًا الثوبَ: کپڑے کے کنارے بٹنا، المسواکَ الخشن: مسواک کا سرا نرم کرنا۔

۲۔ اَکْنَشَہُ عن الامر: سے کام میں جلدی کرانا۔

۳۔ الکُنَّاشَۃُ: بیاض جس میں مفید اور نادر باتیں لکھ لی جائیں۔ الکُنَاشَاتُ، واحد کُنَاشَۃٌ: جڑیں جن سے شاخیں پھوٹیں۔ الکِنْشَاء من الرجال: چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بالوں والا بدصورت مرد۔

○ کُنَّاش و کُنَّاشَۃ: تراشے لگانے کی کاپی کُنَّاشات: بنیادی اصول، سرچشمے۔

کنص: کَنَّصَ: مذاق سے ناک کو حرکت دینا۔ الکُنَاصُ: قوی اونٹ گدھے وغیرہ۔

○ کُنْصُول جمع کُنْصُولات: برقی یا مکینیکل ساز و سامان کے سوچوں، کنٹرولوں وغیرہ کے لئے منقش تختہ ۲۔ فرش پر رکھنے کا ریڈیو یا ٹیلیویژن کا کیبنٹ۔ ۳ کی بورڈ پر مشتمل فریم۔

○ کَنْغَر: کنگرو: اگلی چھوٹی اور پچھلی لمبی ٹانگوں والا آسٹریلیا کا ایک جانور۔

کنظ: کَنَظَ ـُ کَنْظًا و تَکَنَّظَ الامرُ فلانًا: کو غمگین کرنا۔ الکُنْظَۃُ: غم، دباؤ۔

کنع: ۱۔ کَنَعَ ـَ کُنُوعًا: سمٹنا۔ ملنا ـــ ت العُقابُ: عقاب کا حملہ کرنے کیلئے بازوؤں کو سمیٹنا۔ ـــ اصابعَہُ: انگلیوں کو مار کر خشک کرنا۔ ـــ الامرُ: قریب ہونا۔ ـــ النجمُ: ستارے کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ ـــ المسکُ بالثوب: مشک کا کپڑے سے چپکنا۔ ـــ الیہ: سے فروتنی کرنا اور نرم ہونا۔ کَنِعَ ـَ کَنَعًا: خشک

ہونا، سکڑنا صفت کَنِعٌ۔ الرجُلُ: پچھاڑا جانا۔ — الشیئُ: لازم ہونا اور ہمیشہ رہنا۔ کَنَعَ الشیئَ: کو سکیڑنا، ملانا۔ یدَہٗ: کا ہاتھ خشک کرنا اور شل کرنا۔ — فلانا بالسیف: کے بند دست پر تلوار مارنا۔ اَکْنَعَ: فروتنی کرنا، نرم ہونا، ذلت کے قریب پہنچنا، سوال کرنا۔ — الابل: اونٹوں کو قریب کرنا۔ — القومُ: اکٹھا ہونا۔ — ت العُقابُ: عقاب کا ٹوٹ پڑنے کے لئے بازوں کو سمیٹنا۔ تَکَنَّعَ قلعہ بند ہونا۔ — الاسیرُ فی قِدِّہٖ: قیدی کا تسمہ سے باندھا جانا۔ — بہ: سے چمٹنا۔ اِکْتَنَعَ: حاضر ہونا، قریب ہونا۔ — القومُ: اکٹھا ہونا۔ — علیہ: پر مہربان ہونا۔ — فلانٌ مِنّی: کا میرے قریب ہونا۔ الکَانِعُ (فا): وہ جو قریب ہو، چھوٹا ہو، بعض بعض سے قریب ہو، کہا جاتا ہے۔ اَنْفٌ کَانِعٌ چپٹی ناک، اسیرٌ کَانِعٌ تسمہ سے بندھا ہوا قیدی۔ رَجُلٌ کَانِعٌ: وہ شخص جو اہل وعیال سمیت تمہارے پاس آپڑے اور تمہارے فضل واحسان کی طمع کرے۔ الکُنَاعُ مرض کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کا چھوٹا ہونا گویا کہ کٹا ہوا یا مڑا ہوا ہے۔ الکَنِیْعُ سکڑا ہوا، راستے سے ہٹا ہوا، ٹوٹے ہوئے ہاتھ والا۔ من الجوع سخت بھوک۔

الاَکْنَعُ ج کُنْعٌ: شل شدہ، کٹے ہوئے ہاتھ والا، — من الامور: ناقص، ادھورا کام۔ المُکْنَعُ: کٹے ہوئے ہاتھ والا اور فالج زدہ شخص المُکَنَّعُ بمعنی المُکْنَعُ یدٌ مَکْنُوعَةٌ: شل ہاتھ۔ المَکْنُوعُ (مفع): دونوں ہاتھ کٹا ہوا۔

۲۔ کَنَعَ ۔ کُنُوعًا عن الامر: کسی معاملہ میں بزدل ہونا اور بھاگنا۔ کَنَعَ عنہ: سے علیحدہ ہونا۔ المکنیع: راستے سے ہٹ جانے والا۔

۳۔ کَنَعَ ۔ کُنُوعًا باللّٰہ: اللہ کی قسم کھانا۔

کنف: ۱۔ کَنَفَ ۔ کَنْفًا الشیئَ: کی حفاظت کرنا، کو اپنے میں ملانا۔ — الابلَ وللابل: اونٹوں کے لئے باڑ بنانا۔ الدارَ: گھر میں لیٹرین بنانا۔ — یدَہٗ: پانی وغیرہ لینے کے لئے ہاتھوں کو ملانا۔ — الرجُلَ: کی مدد کرنا۔ فلانًا عن الامر: کو سے روکنا۔ کَنَّفَ الرجُلَ: کا احاطہ کرنا، کو گھیرنا۔ کَانَفَ و اَکْنَفَ الرجُلَ: کی مدد کرنا۔ اِکْتَنَفَ: اونٹوں کے لئے باڑہ بنانا۔ القومُ فلانًا: قوم کا کسی کو گھیرنا۔ القومُ: لیٹرین بنانا۔ الکِنْفُ: تاجر یا چرواہے کے سامان رکھنے کا برتن۔ الکَنَفُ ج اَکْنَافٌ: جانب، سایہ، پرندے کا بازو، طرف۔ کَنَفُ الانسانِ: پہلو، یا دونوں بازو اور سینہ، کہا جاتا ہے۔ انت فی کنف اللّٰہ: تم اللہ تعالیٰ کے حفظ وامان میں ہو۔ الکَانِفَةُ: روکنے والا الکَنَفَةُ: گوشہ، الکِنَافَةُ ج کِنَافَاتٌ (ط) چپٹری۔ الکَنِیْفُ ج کُنُفٌ و کُنُفٌ: پردہ، پردہ کرنے والا، ڈھال، جانوروں کا باڑہ، لیٹرین، دروازے کا چھجہ یا چھپر کہا جاتا ہے۔ رجلٌ مُکَنَّفُ اللِحْیَةِ: بھاری داڑھی والا مرد، دراز ریش مرد۔

۲۔ کَنَفَ ۔ کَنْفًا عنہ: سے علیحدہ ہونا۔

۳۔ الکُنْفُرْوَا (ن): پھیلنے والا پودا، یہ میٹھے پانی میں پایا جاتا ہے اس کے پتے شریانوں کی شکل میں ملائم، لمبے اور باریک ہوتے ہوں میں، یہ بڑی تیز رفتاری سے بڑھتا ہے اور اسے زرد رنگ کے فوم بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

کنك: الکُنْکُرُ (ن) دیکھیں قلقاس رومی۔

○ کَنَفَ ۔ کَنْفًا ہ: کی نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا۔ — ھ: کے گرد باڑھ لگانا۔ — ہ/ھ کو گھیرے میں لینا۔ — ہ: کی مدد کرنا، اعانت کرنا۔ کَانَفَ و اَکْنَفَ ہ: کو پناہ دینا، کی حفاظت کرنا، مدد کرنا، اعانت کرنا۔ اِکْتَنَفَ ھ کا دونوں جانب سے احاطہ کرنا، کو گھیرے ہوئے ہونا، کی احاطہ بندی کرنا، کو آغوش میں لینا۔ کَنَف جمع اَکْنَاف: جانب، پہلو، طرف، بازو، سایہ، پناہ گاہ، جنگلا، کٹہرا، باڑہ، گود، فی کَنَفِ: کی آڑ میں، کی اوٹ میں، کے ماحول میں۔ فی اَکْنَافِہٖ: کی زیر حفاظت کی زیر سرپرستی میں۔ کُنَافَة جمع کُنَافَات: سویاں۔ کَنِیف جمع کُنُف: طہارت خانہ فلش، بیت الخلا، پیشاب خانہ مُکْتَنَفٌ ب: سے گھرا ہوا، سے احاطہ کیا ہوا۔

○ کَنْفَاش: کینوس Canvas

○ کَنْکَة (تنکة) جمع کنکات: کافی (قہوہ) کی پیالی۔

○ کَنْکَنَ: گھر پر ٹھہرنا، رہنے لگنا، آرام سے رہنا، جیسے اپنے گھر میں ہو، ساتھ لگنا۔

○ کَنْکِینا: کونین۔

کنہ: اَکْنَہَ و اِکْتَنَہَ الشیئَ: کی حقیقت کو پہنچنا۔ الکُنْہُ: چیز کا جوہر، اصل قدر، حقیقت غایت اور وقت۔ شاعر کا کہنا ہے۔ فاِنَّ کلامَ المرءِ فی غیرِ کنہہ یعنی اس نے بے موقع بات کہی۔

○ کنہ: اِکْتَنَہَ ھ کی تہہ تک پہنچنا، کا کھوج لگانا، کی چھان بین کرنا، کو پوری طرح سمجھنا۔ اِسْتَکْنَہَ ھ کا کھوج لگانے کی کوشش کرنا، کی تہہ تک پہنچنا، کو سمجھنا، معلوم کرنا، دریافت کرنا۔ کُنْہ انتہا، بنیادی نکتہ، ماہیت، اصل حقیقت، حقیقی فطرت، اصلی وجود۔ یَعْرِفُہٗ کُنْہَ المعرفة: وہ اسے پوری طرح سے سمجھتا ہے۔ تَکَہُّنَات: قیاس آرائیاں، قیاسات، پیشن گوئیاں۔ اِکْتِناہ و اِسْتِکْنَاہ: تہہ تک رسائی، تیز فہمی، تحقیق، کھوج۔

کنو: کَنَا یَکْنُوْ کِنَایَةً بالشیئِ عن کذات: سے کا کنایہ کرنا، لفظ بولنا اور اس کے غیر مدلول کا ارادہ کرنا۔ الکُنْوَةُ والکِنْوَةُ کنیت۔ دیکھو کنی یکنی

کنی: کَنٰی یَکْنِیْ کِنَایَةً بالشیئِ عن کذا: لفظ بولنا اور اس کے غیر مدلول کا ذکر کرنا مثلاً آپ کہیں زَیْدٌ کَثِیْرُ الرَّمَادِ: اور مراد لو کہ زید کریم ہے۔ متکلم کو کَانٍ اور لفظ کو مَکْنِیٌّ عَنْہُ کہتے ہیں۔ کَنٰی ۔ کُنْیَةً و کِنْیَةً و کَنّٰی تَکْنِیَةً زیدًا ابافلان و کَنَاہُ او کَنَّاہُ بابی فلان: کی کنیت رکھنا۔ اَکْنٰی اِکْنَاءً زیدا اَبَافلان: کی کنیت رکھنا۔ تَکَنّٰی تَکَنِّیًا بکذا: اپنی کنیت رکھنا۔ — الرجُلُ: مشہور ہونے کے لئے اپنی کنیت بیان کرنا۔ چھپنا۔ اِکْتَنٰی اِکْتِنَاءً بکذا: اپنی کنیت رکھنا۔ الکَانِیُ ج کُنَاةٌ و کَانُوْنٌ (فا) الکُنْیَةُ والکِنْیَةُ والکُنْوَةُ والکِنْوَةُ ج کِنًی و کُنًی: وہ نام جو کسی کی تعظیم یا علامت کے لئے بولا جائے، وہ نام جو اب، ابن، ام یا بنت سے شروع کیا جائے۔ الکِنَایَةُ (مص) — فی الاصطلاح: اصطلاح میں کنایہ اس کو کہتے ہیں کہ شیئ معین کو کسی ایسے لفظ سے تعبیر کیا جائے جس کی دلالت اس پر صریح نہ ہو اور ایسا کسی غرض کے لئے کرتے ہیں مثلاً سامعین سے بات کو مبہم رکھنا جیسے آپ کہیں۔ ھُمْ بَنُوْ اُمِّی یعنی وہ میری امی کے بیٹے ہیں (مراد بھائی)۔ الکَنِیُّ: ہم کنیت، کہا جاتا ہے۔ ھُوَ کَنِیُّہٗ یعنی دونوں کے لئے ایک کنیت ہے جیسے تم کہتے ہو۔ ھُوَ سَمِیُّہٗ یعنی دونوں ہم نام ہیں۔

○ کَنَا ۔ و کَنٰی ۔ کِنَایَةً ب ہ عن: کو کے لئے مجازاً استعمال کرنا۔ کا سے اشارہ کرنا۔ تلمیح کرنا، کنایہ کرنا۔ کَنٰی ۔ کُنْیَةً و کُنْیَةً و کَنّٰی ہ ب: کو کے خاندانی نام، عرفیت سے پکارنا۔ تَکَنّٰی و اِکْتَنٰی ب: کے خاندانی نام (عرفیت) سے معروف ہونا۔ خود کو کے خاندانی نام سے پکارنا۔ کی کنیت رکھنا۔ بِالْکِنَایَةِ: بہ واسطہ، بالواسطہ، ھو کنایة عن: وہ کے مترادف ہے، اس کا مطلب ہے۔ معنی ہے کہ، وہ کی علامت ہے، وہ پر مشتمل ہے۔ کِنَایَةً عن: کے مترادف، کی جگہ، کے بجائے۔ مَکْنِیٌّ عنہ مجازاً اظہار کیا ہوا۔ مُکَنًّی: خاندانی نام والا، عرفیت والا۔

کہب: کَہِبَ ۔ و کَہُبَ ۔ کَہَبًا و کُہُوْبًا: سیاہی مائل بھورا ہونا صفت: کَاہِبٌ و اَکْہَبُ۔ اِکْہَابَّ اِکْہِیْبَابًا لونُہٗ: کا رنگ متغیر ہونا۔ الکُہْبَةُ سیاہی مائل بھورا رنگ۔ رَجُلٌ اَکْہَبُ اللَّوْنِ: متغیر رنگ والا۔

کھد: کَھَدَ ـَ کَھْدًا و کَھَدَانًا الحمارُ: گدھے کا دوڑنا۔ الرجُلُ: تھکنا۔ الحمار: گدھے کو دوڑانا۔ ـفی الطلب: پر اصرار کرنا۔ اَکْھَدَ: تھکنا۔ فلانًا: کو تھکانا۔ الکَھْدُ (مص): مشقت۔ الکھداء: باندی، کہا جاتا ہے۔ اَتَانٌ کَھُوْدُ الیَدَیْنِ: تیز رفتار گدھی۔

کھر: کَھَرَ ـَ کَھْرًا فلانًا: کے ساتھ حقارت سے ترش روئی سے پیش آنا، کو جھڑکنا، پر قہر کرنا۔ الکَھُوْرُ ج کَھَارِیْرُ: ترش رو جو لوگوں کو جھڑکے۔ الکُھْرُوْرَۃُ ج کَھَارِیْرُ بمعنی الکُھْرُور: ترش روئی۔

۲۔ کَھَرَ ـ کَھْرًا النہارُ: دن کا بلند ہونا۔ الحرُّ: گرمی تیز ہونا۔

۳۔ کَھَرَ ـ کَھْرًا الرجُلُ: ہنسنا۔

۴۔ کَھَرَ ـ کَھْرًا فلانًا: سے خسر داماد کا تعلق کرنا۔

۵۔ کَھْرَبَ الشیئَ: میں قوت کہربائیہ (یعنی برقی طاقت) بھرنا (فارسیہ) تَکَھْرَبَ فلانٌ او الشیئُ: بجلی کو چھونے کی وجہ سے اس میں قوت کہربائیہ سرایت کرنا۔ فلانٌ: غصے سے بھڑ جانا۔ الکَھْرَبَا: ایک درخت کا گوند کہ اس کو رگڑ دیا جاتا ہے تو تنکا وغیرہ کو کھینچ لیتا ہے۔ الکَھْرَبَاء: کہرباء (ف): بجلی۔ الکَھْرَبَائِیَّۃُ و الکَھْرَبِیَّۃُ: بجلی کی طاقت۔ السیّال الکھربائی: بجلی کی تاروں میں چلنے والی قوت۔ الکُھَیْرِبُ (ف): الیکٹرون (Electron)

○ کَھْرَبَ ہ: میں بجلی لگانا، کو برقانا، برقی بنانا، بجلی سے چلنے والا بنانا، کو برقپاروں میں تبدیل کرنا۔ تَکَھْرَبَ: بجلی لگا ہوا، برقایا ہوا ہونا، برقی بنایا ہوا ہونا، برقی بنایا ہوا، بجلی سے چلنے والا بنایا ہوا ہونا، برقی ہو جانا، بجلی بھرا ہوا ہونا، برقپاروں میں تبدیل ہونا۔ کَھْرَبَۃ: بجلی لگانا، بجلی سے چلنے والا بنانا، برقانا، برقی بنانا، بجلی، برق، برقی قوت کُھَیْرَب جمع کُھَارِب: الیکٹرون کُھَیْرِبی: الیکٹرونک، الیکٹرون، منفی برقیہ والا۔ المِجْھَر الکھیربی: الکٹرونی خردبین۔ کَھَارِبی: الیکٹرونی۔ کَھْرَبَاء و کھربا: کہربا، عنبر، بجلی، برق۔ الکَھْرَبَاء: ٹرالی، ٹرام۔ کَھْرَبَائِی و کَھْرَبِی: برقی، بجلی والا، بجلی کا مستری، الیکٹریشن۔ تیار کھربائی: برقی رو۔ جامعۃ کھربائیۃ: سٹوریج بیٹری، سیکنڈری بیٹری، مخزن برق، برقی مخزن۔ مِصْبَاح کھربائیۃ: برقی لیمپ، روشنی کا بلب۔ علاج کھربائی: برقی علاج۔ عالم کھربائی: برقی معالج۔ مَغْنَطِیس کھربائی: مقناطیسی برق۔ مَغْنَطِیسِیَۃ کھربائیۃ: برقی مقناطیسیت۔ نُورٌ کھربائی: برقی روشنی۔

کَھْرَبَائِیَۃ و کَھْرَبِیَۃ: بجلی، برق۔ مُکَھْرَب: بجلی بھرا، بجلی لگایا ہوا، برقایا ہوا، برقی بنایا ہوا۔ برق ایصال کرنے والا۔ برق پاروں میں تبدیل کیا ہوا۔ برقی آتش زن لگا ہوا۔ کَھْرَطِیسی: برقی مقناطیسی۔ کَھْرَمان: عنبر کہربا۔

کھف: تَکَھَّفَ الجبلُ: پہاڑ کا غاروں والا ہونا۔ اِکْتَھَفَ الکھفَ: غار میں داخل ہونا۔ الکَھْفُ ج کُھُوْفٌ: غار: (غار اور کہف میں فرق یہ ہے کہ غار چھوٹا ہوتا ہے اور کہف وسیع) جائے پناہ۔

○ اصحاب الکھف: غار میں سات سونے والے۔

کھک: ۱۔ کَھْکَہَ المقرورُ: سردی زدہ شخص کا سانس سے ہاتھوں کو گرم کرنا۔ الشیئَ: گرم ہونا۔ شیخ کَھْکَہٌ: بوڑھا جو سردی کھائے ہوئے ہاتھوں کو سانس سے گرم کرے۔ الکَھْکَھَۃُ (مص): حرارت۔

۲۔ کَھْکَہَ الاسدُ او البعیرُ: کہ کہ کی آواز نکالنا۔ الکَھْکَھَۃُ: شیر یا اونٹ کی آوازوں کی نقل۔

۳۔ تَکَھْکَہَ عنہ: ضعیف و کمزور ہونا۔ الکَھْکَاہُ والکَھْکَاھَۃُ: ضعیف، خوفناک۔

کھل: ۱۔ کَھَلَ ـ کُھُوْلًا و کَھِلَ ـ کُھُوْلَۃً: ادھیڑ عمر ہونا۔ کَاھَلَ مُکَاھَلَۃً الرجُلُ: ادھیڑ عمر ہونا۔ تَکَھَّلَ النباتُ: پودے کا پوری لمبائی کا ہونا۔ اِکْتَھَلَ: ادھیڑ عمر کا ہونا۔ النباتُ: پودے کا پوری لمبائی کا ہونا۔ الکَھْلُ ج کَھْلُوْنَ و کُھُوْلٌ و کِھَالٌ و کُھْلانٌ و کُھَّلٌ: جس کی عمر تقریباً تیس سے پچاس سال ہو۔ ادھیڑ عمر (شخص) الکَھْلَۃُ ج کَھْلَاتٌ و کَھَلَاتٌ: کَھْلٌ کی مونث۔ ادھیڑ عمر (عورت) الکُھُوْلَۃُ والکُھُوْلِیَّۃُ: کہالت کی حالت، ادھیڑ عمر۔

۲۔ کَاھَلَ مُکَاھَلَۃً الرجُلُ: شادی کرنا۔

۳۔ الکَاھِلُ ج کَوَاھِلُ (ع ا): گردن کے قریب پیٹھ کا بالائی حصہ۔ کَاھِلُ القَوْمِ: قوم کا معتمد کہا جاتا ہے۔ فُلانٌ شَدِیْدُ الکَاھِلِ: فلاں صاحب شوکت و وقعت ہے۔ الکَھُوْلُ (ح): مکڑی۔

○ کاھل: ثَقَلَ کَاھِلَۃً: پر بوجھ ڈالنا، لادنا، کو زیر بار کرنا۔ ثَقَلَ کاھلَ المیزانَ: بجٹ پر بوجھ ڈالنا۔ تخفیف العبء عن کاھلہ: کسی شخص یا چیز سے بوجھ اتار دینا۔

کھم: ۱۔ کَھَمَ ـ کَھَمَاتُ الشدائدُ فلانًا: کو خوف دلانا، آگے بڑھنے سے بزدل بنانا۔ کَھِمَ ـ کَھَامَۃً الرجُلُ: لڑائی اور مدد سے سستی کرنا۔ کَھِمَ ـ کَھَامَۃً و کُھُوْمًا: کمزور ہونا۔ السیفُ: کند ہونا۔ کَھُمَ ـ کَھَامَۃً و کُھُوْمًا: کمزور ہونا۔ السیفُ: کند ہونا۔ کَھُمَ ـ کَھَامَۃً و تَکَھَّمَ الرجُلُ: لڑائی اور مدد سے سستی کرنا۔ اَکْھَمَ بصرُہٗ: کی نگاہ کمزور ہونا۔ الکَھَامُ والکَھِیْمُ: سست، عمر رسیدہ، جس کے پاس کوئی عائل نہ ہو۔ اور جمع کی صورت میں بھی قَوْمٌ کَھَامٌ کہا جاتا ہے۔

۲۔ کَھْمَسَ الرجُلُ: چلنے میں دونوں پاؤں کو قریب قریب رکھنا، چلنے میں غبار اڑانا۔ الکَھْمَسُ (ح): شیر (ح) بھیڑیا، بد صورت، پست قد مرد۔

○ کَھَامَۃ: کمزوری، ناتوانی، دھار کا کند ہونا، تھکاوٹ، تھکن۔

کھن: ۱۔ کَھَنَ ـَ کَھَانَۃً و تَکَھَّنَ تَکَھُّنًا و تَکْھِیْنًا لفلان: کو غیب کی باتیں بتلانا۔ کَھُنَ ـُ کَھَانَۃً: کاہن ہونا یا کہانت طبیعت ثانیہ بن جانا۔ الکَاھِنُ (فا): دوسرے کے کام کا متکفل اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنے والا۔ الکَاھِنُ ج کَھَنَۃٌ و کُھَّانٌ: جو اسرار معرفت اور احوال غیبیہ جاننے کا دعوی کرے۔ عند الیہود و عبدۃ الاوثان: پروہت۔ عند النصاری: پادری جو کہنوت کے درجہ پر ہو (یہ لفظ یا تو عبرانی لفظ کُھِنَ سے ماخوذ ہے یا سریانی لفظ کُھنا سے)۔ الکِھَانَۃُ: کاہن کا پیشہ۔ الکَھُنُوْتُ: کہانت، کاہن کا رتبہ۔ سر الکَھُنُوْتِ: مقدس گرجوں کی سات مذہبی رسموں میں سے ایک جس کے ذریعے کاہن (پادری) حضرت عیسیٰ کے جسم اور خون کی عشائے ربانی میں پڑھی جانے والی دعاء کی تلاوت میں تقدیس اور گناہوں سے بریت کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ (سریانیہ)

۲۔ کَاھَنَ مُکَاھَنَۃً: لطف و کرم سے پیش آنا۔

۳۔ الکَھِیْنُ: قبیح صورت شخص (عامیہ)۔

○ تَکَھَّنَ ب: کی پیشین گوئی کرنا، پیش گوئی کرنا، کے واقع ہونے (عموماً ناگوار) کی علامت ہونا۔ کَھَانَۃ: پیش گوئی، پیشین گوئی۔ کَھَانَۃ: غیب دانی، قسمت کا حال بتانا۔ کَھَنُوت: دینی پیشوائی، دینی پیشواؤں کا نظام۔ رجال الکھنوت: پادری لوگ، تمام پادری۔ کَھَنُوتِی: دینی پیشوائی سے متعلق، مُلائی، مُلایانہ، پادریوں سے متعلق۔ مَکْھَن: دار الاستخارہ۔ کَاھِن جمع کُھَّان و کَھَنَۃ: غیب داں، قسمت کا حال بتانے والا، کاھن، پادری، پیش گوئی کرنے والا۔ رئیس الکَھَنَۃ و کبیرُ الکَھَنَۃ: بڑا پادری۔ مُتَکَھِّن: غیب دان، قسمت کا حال بتانے والا، پیش گوئی کرنے والا۔

○ کُھْنَۃ: چھیچھڑے کاٹ، کباڑ، ردی مال، چیتھڑے کیا

ہوا، پھٹا پرانا۔ کُھنجی: چیتھڑے جمع کرنے والا۔

کھی: کَھِیَ یَکْھٰی کَھًی: کے چہرے میں جھائیں ہونا۔ اَلْاَکْھٰی: چہرے میں جھائیں والا۔ جس کے منہ سے بدبو آئے۔

۲۔ کَھِیَ یَکْھٰی کَھًی: کمزور رہونا، بزدل ہونا۔ اَکْھٰی عن الطعام: سے رک جانا۔ اِکْتَھٰی اِکْتِھَاءً ہٗ: کی تعظیم واجلال کرنا، یہ اکھی (بزدل) سے ماخوذ ہے کیونکہ کمزور بڑے کے سامنے بات نہیں کرسکتا۔ اَلْاَکْھٰی: کمزور۔ بزدل

۳۔ کَاھٰی مُکَاھَاۃً الرجُلَ: باہم فخر کرنا۔ الاَکْھَاءُ: شرفاء

۴۔ اَکْھٰی الرجُلُ: انگلیوں کے اطراف کو سانس سے گرمی پہنچانا۔

۵۔ اَلْاَکْھٰی: بے شگاف پتھر۔

◌ کِھایۃ: تیونس کا ضلع، کاھیۃ جمع کَوَاہٍ: ضلع کا افسرِ اعلیٰ ڈپٹی۔

کیء: کَاءَ یَکُوءُ کَوْءًا و کَأْوًا عنہ: سے خوف کرنا، کے مقابلہ میں بزدل ہونا۔ اَکَاءَ اِکَاءً و اِکَاءَۃً ہٗ: کسی کام پر اچانک پہنچنا اور پھر خوف سے چھوڑ دینا۔ الکَاءُ والکَاءَۃُ والکَیْءُ والکَیْئَۃُ: کمزوردل والا، بزدل۔

◌ کُوۃ جمع کُوَات و کُوًی و کِوَاء: چھوٹی کھڑکی، موکھا، سوراخ، روزن، بالائی کھڑکی، سقفی روشندان جھانکنے کا سوراخ۔

◌ کوَالینی جمع کوالینیۃ: قفل ساز، تالوں والا۔

کوب: کَابَ یَکُوبُ کَوْبًا و اِکْتَابَ: بے دستہ کٹورہ پیالہ یا کوزہ سے پانی پینا۔ الکُوبُ ج اَکْوَابٌ: بے دستہ کوزہ، کٹورہ، پیالہ۔ الکُوبَۃُ: ڈگڈگی

۲۔ کَوَّبَ الشیئَ: کو بے سے کوٹنا۔ الکُوبَۃُ: دوا وغیرہ پیسنے کا بٹا۔

۳۔ الکُوبَانُ: فارسیوں کا لباس (عامیہ) لکَوْبَۃُ: فوت شدہ پر حسرت وافسوس۔ الکُوبَۃُ: شطرنج، نرد۔

◌ کُوب جمع کُواب: (پینے کا) گلاس، پیالی، پیالہ، جام کُوبۃ: پینے کا گلاس، پان کی شکل کا تاش۔ کوبرتۃ: عرشہ جہاز، کوبری جمع کباری: پل۔

◌ کوبنھاج: کوپن ہیگن (فرانس کا ایک شہر) کوبنھاج بمعنی بالا

◌ کُوبِیَا: کاپی قلم کوبیا: کاپنگ پنسل، آمٹ پنسل

◌ کوبیل: سنگریزوں کا فرش، صاف سنگریزے۔

◌ کوبیۃ: کاپی۔

◌ الکویت: کویت (ایک ملک کا نام)

◌ کُوتَر جمع کَوَاتِر: دوستولوں والی کشتی۔

کوث: ۱۔ کَوَّثَ الزرعُ: کھیتی کا چار پانچ پتوں والی ہونا۔ الکَوْثُ: جوتا۔ الکُوثَۃُ: فراخی، زرخیزی۔

۲۔ تَکَوْثَرَ الغبارُ: زیادہ اور تہ بتہ ہونا۔ الکَوْثَرُ: بہت اور تہ بتہ، یا گھنا و گنجان چیز۔ بہت اور تہ بتہ غبار، بہت بڑا فیاض سردار، ایک نہر جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں ہے جو شیریں پانی۔

۳۔ الکَوْثَل والکَوْثَلُ: جہاز کا پچھلا حصہ۔

◌ کَوثَۃ: زرخیزی، بہتات، فراوانی، وفور، افراط۔

◌ کَوثَر: بہت، فراخ، کشادہ، وسیع، کثیر، وافر، فراواں، بڑی مقدار۔

◌ کوثَل: جہاز کا دنبالہ۔

کوح: ۱۔ کَاحَ یَکُوحُ کَوْحًا ہٗ: پرلڑائی میں غالب آنا۔ — الشیئَ: کو پانی میں ڈبونا، مٹی میں دبانا۔ کَوَّحَ ہٗ: کو غالب بنانا — فلانًا: کو ذلیل کرنا، روکرنا۔ الزمامُ البعیرَ: نکیل کا اونٹ کو مغلوب کرنا۔ کَاوَحَ مُکَاوَحَۃً ہٗ: سے گالی گلوچ کرنا۔ سے لڑائی کرنا اور اس پر غالب آنا۔ اَکَاحَ اِکَاحَۃً ہٗ: سے لڑنا، پر غالب آنا، کو ہلاک کرنا۔ تَکَاوَحَ الرجلان: باہم جنگ وجدال کرنا۔

۲۔ الکَاحُ والکِیحُ ج کُیُوحٌ و اَکْیَاحٌ: دامن کوہ کہا جاتا ہے: رَجَعَ اِلٰی کُوحِہٖ: یعنی پہلے اس نے کچھ بھلائی کی پھر باز رہا۔

کوخ: الکُوخُ ج اَکْوَاخٌ و کُوخَانٌ و کِیخَانٌ و کِوَخَۃٌ: جھونپڑی (اسی سے ہے۔ کُوخُ الصّائِدِ: شکاری کی جھونپڑی، کھیت یا باغ کی جھونپڑی جس کو کاشت کار کھیت کی حفاظت کے لئے اور باغبان باغ کی حفاظت کے لئے بنا لیا کرتے ہیں۔ الکَاخُ ج اَکْوَاخٌ و کُوخَانٌ و کِیخَانٌ و کِوَخَۃٌ: جھونپڑی۔ لَیْلَۃٌ کَاخٌ: تاریک رات۔ الکَاخِیَۃُ ج کَوَاخٍ عند ارباب السیاسۃ: والی کا معتمد، محافظ اسرار، یہ اصل میں کتخدا تھا تحریف ہو کر کاخیہ بن گیا (فارسیہ)

کود: ۱۔ کَادَ یَکُودُ کَوْدًا بنفسہ: جان دینا۔

۲۔ کَادَ یَکُودُ کَوْدًا ہٗ: کو منع کرنا۔

۳۔ کَادَ یَکَادُ کَوْدًا و مَکَادًا و مَکَادَۃً: فعل کرنے کے قریب ہونا اور نہ کرنا جیسے کَادَ یَضْرِبُ: مارنے کے قریب ہوا مگر مارا نہیں اور یہ افعال مقاربہ میں سے ہے اور اس کی خبر کے ساتھ حرف اَنْ بہت کم آتا ہے اور کبھی ارادہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور اسی سے ہے۔ اَکَادُ اُخْفِیْھَا: یعنی میں نے اس کو پوشیدہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور عَرَفَ مَا یَکَادُ مِنْہُ: یعنی جو ارادہ کیا جائے معلوم ہو جاتا اور کَادَ کبھی زائد ہوتا ہے اور کلام کا صلہ واقع ہوتا ہے جیسے۔ لَمْ یَکَدْ یَرَاھَا: یعنی لَمْ یَرَھَا، کے معنی میں اور کَادَ کے عوض میں کِیدَ یَفْعَلُ کَذَا بھی سنا گیا ہے۔ المَکَادَۃُ (مص): کہا جاتا ہے۔ لَا مَھَمَّ لِیْ وَلَا مَکَادَۃَ: نہ تو مجھے اس کا قصد ہے اور نہ اس کے قریب ہوں۔

۴۔ کَوَّدَ الشیئَ: کو جمع کرنا اور ایک ڈھیر بنانا۔ الکُوْدَۃُ: مٹی وغیرہ کا تودہ۔

۵۔ اِکْوَادَّ اِکْوِیدَادًا: بوڑھا ہونا اور کانپنا۔

۶۔ الکَوْدَنُ ج کَوَادِنُ، الکَوْدَنِیُّ (ح) غیر اصیل گھوڑا، ہاتھی۔

کوذ: کَوَّذَ الازارُ: ازار کا گرنا اور ران کے اوپر والے حصہ تک آجانا۔ الکَاذَۃُ: ران کے اوپر کا ابھرا ہوا گوشت۔ الکَاذِیُّ (ن): کیوڑہ۔

◌ کَادَ: یَکَادُ اَنْ: کرنے لگنا، کَادَ یَمُوتُ: وہ تقریباً مر گیا۔ کِدْتُ اَذْھَبُ: میں تقریباً چلا گیا۔ یکاد یکون فی حکم العدم: یہ تقریباً کالعدم ہے۔ ماکاد یقوم: جیسے ہی وہ اٹھا۔ لاتکاد تری: تم مشکل سے کبھی دیکھو گے، جس لمحے تم دیکھو لم یکد یراھا: جیسے ہی اس نے اسے دیکھا، جس لمحے اس نے اسے دیکھا۔ لم یکد ......: حتی ماکاد ......: حتی، جیسے ہی، جس لمحے۔ وہ بالکاد: تقریباً، قریب، قریب،

◌ کُودِیۃ زار: زار روس کی رسومات کی خاتون قائد۔

کور: ۱۔ کَارَ یَکُورُ کَوْرًا العمامۃَ و نحوھا علی رأسِہٖ: سر پر پگڑی وغیرہ باندھنا۔ — الحمّالُ الکارۃَ: قلی کا گٹھڑی اٹھانا — الارضَ: زمین کھودنا۔ کَوَّرَ ہٗ: کو پچھاڑنا، نیزہ مار کر گرا دینا — العمامۃَ: سر پر پگڑی باندھنا، اس سے ہے۔ تکویر الحساب: متفرق چیزوں کو ایک ہی مجموعہ میں جمع کرنا۔ المتاعَ: کو تہ بتہ رکھنا۔ اللّٰہُ اللیلَ علی النھارِ: رات کو دن میں داخل کرنا۔ کُوِّرَتِ الشمسُ: آفتاب کی روشنی لپیٹا جانا اور بقول بعض مضمحل کیا جانا اور جاتا رہنا۔ تَکَوَّرَ: گرنا، پچھاڑا جانا۔ اِکْتَارَ اِکْتِیَارًا: عمامہ باندھنا۔ — الشیئُ: بعض کو بعض پر پٹکنا۔ — الرجُلُ: پچھاڑا جانا، گرنا، کہا جاتا ہے۔ کَوَّرَہٗ فَاکْتَارَ: یعنی اس نے اسے پچھاڑا تو وہ گر گیا۔ اِسْتَکَارَ اِسْتِکَارَۃً: اپنی پیٹھ پر گٹھڑی اٹھانا۔ الکَارَۃُ ج کَارَاتٌ غلہ کی ایک معلوم مقدار — من الثیاب: دھوبی کی کپڑوں کی گٹھڑی۔ الکَوْرُ (مص) ج اَکْوَارٌ: عمامہ کا پیچ، بڑی جماعت، اونٹوں یا گائیوں کا گلہ، زیادتی (کور العمامۃ: سے ماخوذ) الکُوْرُ: بھڑوں کا چھتہ۔

الکُوْرُ ج اَکْوَارٌ و اَکْوُرٌ و کِیْرَانٌ و کُوْرَانٌ: مٹی کی انگیٹھی۔ الکُوْرَۃُ ج کُوَرٌ: قصبہ۔ الکُوَارَۃُ: شہد کی مکھیوں کے لئے ٹہنی یا مٹی کا بنایا ہوا گھروندہ یا موم سمیت شہد، آٹے یا گندم کا ذخیرہ کر کے رکھنے کی مٹی کی کوٹھی۔ الکِوَارَۃُ: پگڑی۔ نکُوَارَۃُ: شہد کی مکھیوں کیلئے ٹہنی یا مٹی کا بنایا ہوا گھروندہ یا موم سمیت شہد۔ المِکْوَرُ و مِکْوَرَۃُ: پگڑی۔ المَکْوَرِیُّ والمِکْوَرِیُّ مونث مَکْوَرِیَّۃٌ: چوڑے بدن کا پست قد۔

۲۔ کَارَ یَکُوْرُ کَوْرًا فی مشیہ: تیز چلنا۔ کَارَ کِیَارًا الفرسُ ذَنَبَہُ: گھوڑے کا دوڑنے میں دم اٹھانا۔ کُنَارِ کُبَارِ الفرس: دوڑنے میں دم اٹھانا۔ الرجلُ: تیز چلنا۔ سُنْکَرَ سُنْکَرَۃً: تیز چلنا۔ نَکَوَّرَۃً: تیز دوڑ۔

۳۔ کَرَ کَرَۃً عنہ: ضعیف و کمزور سمجھنا۔ ذلیل کرنا۔ نکُوْرُ و نمکُوْرُ: اونٹ کا کجاوہ یا کجاوہ مع سامان۔

۴۔ تَکَوَّرَ: تیز گزر جانا۔ اکْتَارَ اکْتِیَارًا الرجُلُ للرجُلِ: کو گالی دینے کے لئے آمادہ ہونا۔

۵۔ الکَارُ ج کَارَاتٌ: ایک قسم کا جہاز۔ — عند العامۃ صنعت و حرفت (فارسیہ) الکَوْرُ: طبیعت، عادت، کہا جاتا ہے۔ لَہُ کَوْرٌ کَرِیْمٌ: اس کی طبیعت اچھی ہے۔ المَکْوَرِیُّ و المِکْوَرِیُّ مونث مَکْوَرِیَّۃٌ: کمینہ۔ الکُوْرَارُ: ایک نباتاتی زہر جسے جنوبی امریکہ کے اصلی باشندے تیروں کو زہر آلود کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

○ کَوَّرَہٗ: کو لپیٹنا، کنڈل بنانا، لپیٹ کر گولا بنانا۔ — ہ (پگڑی) باندھنا۔ — ہ: کو گول بنانا، گیند کی شکل کا بنانا۔ قبضۃَ اپنی (مٹھی) بھینچنا۔ تَکَوَّرَ: گول ہو جانا، گیند کی شکل کا ہونا یا ہو جانا، کروی ہونا یا ہو جانا، لوٹ پوٹ ہونا، ڈھیر ہونا۔ کُوْر جمع کُوَار واکْوُر و کِیران: اونٹ کی پالان، کاٹھی، بھٹی (دھاتوں کو گلانے کی)، بھٹی، تنور، ہوٹنگی، کُوْرَۃ جمع کُوَر: ضلع، دیہاتی علاقہ، قصبہ، گاؤں، گیند، کُوَارَۃ جمع کَوَائِر: چھتا (شہد کی مکھی کا) کُوْرِی: گیند کی شکل کا، کروی۔ مِکْوَر و مِکْوَرَۃ: پگڑی۔ مُکَوَّر: گیند کی شکل کا، گول، کروی۔ بالکُوْرجۃ: ڈھیر کے حساب سے، سارا ہی ایک بار۔ تھوک۔

○ کوردُون جمع کوردونات: فیتہ، ڈوریہ، ڈوری، لیس، فیتہ، گوٹ، کناری۔

○ کَـوْرَس: گلوکاروں کا طائفہ (مجازا): گرجے کی بھجن منڈلی۔ کَوْرَسِیہ جمع کورسیات: زنانہ زیر

جامہ۔ کُورِك و کُورِیلك: بیگار

○ کورنیش: دیکھو کرنیش

○ کوریا: ایک ملک کا نام کوری: کوری کوریائی۔

کوز: کَازَ یَکُوْزُ کَوْزًا: کوزے سے پینا۔ الشیئَ کو جمع کرنا۔ تَکَوَّزَ القومُ: قوم کا اکٹھا ہونا۔ اکْتَازَ: کوزے سے پینا۔ الماء: پانی کو کوزے سے لے لینا۔ الکُوْزُ ج اَکْوَازٌ و کِیْزَانٌ و کِوَزَۃٌ: کوزہ (ارامیہ)۔ مُکَوَّزُ الرَّأْسِ: لمبے سر والا۔

۲۔ الکَازُ: پٹرول (عامیہ)۔ عند الاساکفۃ: چمڑا کانٹ چھانٹ کرنے کی موچی کی رامی (فارسیہ)۔

کوس: ۱۔ کَاسَ یَکُوْسُ کَوْسًا علی رأسہ: سر کے بل الٹ پڑنا۔ — فی البیع: قیمت گھٹانا، کہا جاتا ہے۔ لَا تَکُسْنِی یا فلان فی البیع: یعنی اے فلاں میرے لئے قیمت مت گھٹانا۔ — واَکَاسَ اِکَاسَۃً: کو پچھاڑنا۔ کَوَّسَ الشیئَ علی رأسہ: کو سر پر اوندھا کرنا۔ تَکَوَّسَ الرجُلُ: سرنگوں ہونا۔

۲۔ کَاسَ یَکُوْسُ کَوْسًا البعیرُ: ایک ٹانگ کے زخمی ہونے کی وجہ سے تین ٹانگوں پر چلنا۔ — فی السیر: آہستہ آہستہ چلنا کہا جاتا ہے۔ فلان یَکُوْسُ فی السَّیْرِ: فلاں چلنے میں دیر کرتا ہے۔ الکُوْسِیُّ من الخیل: چھوٹی ٹانگوں والا گھوڑا مونث کُوْسِیَّۃٌ۔

۳۔ کَاسَ یَکُوْسُ کَوْسًا تِ الحیَّۃُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ تَکَاوَسَ لحمُہُ: گوشت کا تہہ بہ تہہ ہونا۔ — العشبُ: گھاس کا گنجان اور بہت ہونا۔ لُمْعَۃٌ کَوْسَاءُ ج کُوْسٌ: آپس میں لپٹا ہوا خشک گھاس کا مٹھا۔ رَمَلٌ کُوْسٌ: تہہ بہ تہہ جما ہوا ریت۔ المَکَاسُ: سانپ کے کنڈلی مارنے کی جگہ۔

۴۔ اِکْتَاسَہُ عن حاجتہ: کو ضرورت سے روکنا۔

۵۔ الکَاسُ: کَأْسٌ: کا مخفف بمعنی پیالہ۔ الکَوْسُ: دریا کا تلاطم، ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الکُوْسُ ج کُوْسَاتٌ: ڈھول، ایک مثلث پیمانہ جس کو بڑھئی استعمال کرتے ہیں اسے عام طور پر زاویہ کہتے ہیں (فارسیہ) الکُوْسَا واحد کُوْسَاۃٌ (ن) امریکی اصل کی کھیرے کی طرح لمبی شکل کی سبزی جسے پکا کر کھایا جاتا ہے عام لوگ ایک کو کوسایۃ کہتے ہیں۔ المِکْوَسُ ج مَکَاوِسُ: چکی کے پتھر درست کرنے کی چھینی۔

۶۔ کَوْسَجَ و تَکَوْسَجَ الرجُلُ: کوسج ہونا۔ الکَوْسَجُ جمع کَوَاسِجُ: صرف تھوڑی پر داڑھی والا، کم دانتوں والا، آہستہ چلنے والا گھوڑا۔ (ح): ایک قسم کی مچھلی جس کی ناک آرے کی طرح ہوتی ہے۔

کوش: کَاشَ یَکُوْشُ کَوْشًا — [illegible]

عام لوگ کہتے ہیں۔ کـاش اس وقت کہتے ہیں جب کوئی دنیا کی محبت شدت اختیار کر لے یا اس میں منہمک ہو جائے صفت کایش اور اسم کَوْشَۃٌ ہے۔

○ کُوز جمع کِواز و کِیزان: مٹی یا ٹین کا چھوٹا جگ۔ مگ، آبخورہ کوز الذُّرَۃ: مکئی۔

○ کُوس جمع کوسات: چھوٹا ڈھول۔

○ کُویس: عمدہ، اچھا، خوب، نفیس، شاندار دلکش، حسین، خوبصورت، خوش انداز، خوبرو، خوبصورت اَکْوَس زیادہ خوبصورت، زیادہ دلکش، نفیس تر، زیادہ شاندار۔

○ کَوْسَج: کنار مچھلی، تیغ ماہی۔

○ کُوشَۃ جمع کُوَش: بھٹہ، پژاوہ (خصوصا): چونے کی بھٹی۔

کوع: کَاعَ یَکُوْعُ کَوْعًا الکلبُ: گرمی کی وجہ سے کہنی پر چلنا، زخمی ہونے کی وجہ سے کلائی پر چلنا۔ کَوِعَ یَکْوَعُ کَوَعًا: بڑی کہنی والا ہونا، مڑی ہوئی کلائی والا ہونا، صفت اَکْوَعُ مونث کَوْعَاءُ ج کُوْعٌ۔ کَوَّعَہُ بالسیف: کو تلوار مار کر کلائی ٹیڑھا کرنا۔ تَکَوَّعَتْ یدُہُ: کی کلائی کا ٹیڑھا ہونا۔ الکَاعُ ج اَکْوَاعٌ (ع ا): انگوٹھے کی جانب کہنی کا کنارا۔ الکُوْعُ ج اَکْوَاعٌ (ع ا): بمعنی الکَاعُ — عند العامۃ: راستہ کا موڑ اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں۔ کَوَّعَ: یعنی وہ تنگ گلی میں چلا۔ الکَوَعُ (مص): کلائی کی جانب ہتھیلی کا ٹیڑھا پن ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کے بالمقابل آنا، پاؤں کے انگوٹھے کا دوسری انگلیوں کی طرف جھکاؤ۔

○ کُوع و کاع جمع کِواع و کیعان: کلائی کی ہڈی، کہنی کُوع: پائپ کا کونہ (مڑا ہوا)، زاویہ، پائپ کا بل، (سڑک کا) موڑ، پائپ کا کونہ۔ لایعرف الکوع من البوع: اسے اپنی کہنی سے اپنے گھٹنے کا پتہ نہیں یعنی وہ بے وقوف ہے۔

کوف: کَافَ یَکُوْفُ کَوْفًا الادیمَ: چمڑے کے کناروں کو ملا کر سینا۔ کَوَّفَ الرجُلُ: کوفہ میں آنا۔ — الکَافَ: حرف کاف لکھنا۔ تَکَوَّفَ القومُ تَکَوُّفًا و کَوْفَفًا علی غیر القیاس: جمع ہونا۔ — الرجُلُ: اہل کوفہ کے مشابہ ہونا یا اہل کوفہ کی طرف منسوب ہونا۔ الکُوْفَۃُ: ریت کا گول سرخ ٹیلہ، عراق کا ایک تاریخی شہر۔ الکُوْفِیُّ: کوفہ کی جانب منسوب، اور اسی سے ہے خط کوفی۔ الکُوْفِیُّوْنَ: کوفہ کے نحوی حضرات۔ الکُوْفِیَّۃُ: کوفی کا مونث، سر پر لپیٹنے کا رومال اور عوام اسے الکَفِیَّۃُ کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ لفظ عربی ہے اور کوفہ سے منسوب ہے جبکہ بعض کہتے ہیں یہ لفظ

اصل میں اٹلی زبان میں کوفا تھا جس کا معنی ٹوپی کے ہیں بعد میں اسے عربی الفاظ میں شامل کرلیا گیا۔
الکُوْفَانُ و الکَوْفَانُ و الکَوَّفَانُ: ریت کا گول ٹیلہ، گول چیز، نرکل بانس ولکڑی کا جھنڈ، کہا جاتا ہے۔ظَلُّوْا فِیْ کُوْفَانٍ مِنْ اَمْرِھِمْ: ان کا معاملہ گڑبڑ ہوگیا، اور کہا جاتا ہے۔النَّاسُ کُوْفَی مِنْ اَمْرِھِمْ: لوگ گڑبڑی میں ہیں

۲۔کَوَّفَ ــــ الادیمَ: چمڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ــــ الشیئَ: علیحدہ کرنا۔

۳۔الکُوْفَانُ و الکَوْفَانُ و الکُوَّفَانُ: عزت وشوکت، (کہا جاتا ہے۔ھُمْ فِیْ کُوْفَانٍ مِنْ ذَالِکَ: یعنی وہ لوگ اس سے عزت وشوکت میں ہیں۔) مشقت۔

۴۔کَوْفَلَتِ المرأۃُ ابنَھا: عورت کا اپنے بیٹے کو کافولیۃ میں لپیٹنا۔الکافولیۃ: مربع شکل کا سفید کپڑے کا ٹکڑا، جس میں بچوں کو لپیٹا جاتا ہے۔ (عامیہ)

○ تکوّف: بھیڑ کی شکل میں اکٹھا ہونا۔

کوک: ۱۔الکُوْکَۃُ (ن): دو سے تین میٹر تک اونچا بیضوی شکل کے پتوں والا ایک پودا جس سے کوکین نکالی جاتی ہے۔الکُوْکَائِیْنُ: کوکا کے درخت سے نکالا جانے والا مواد جو طب میں مقامی نشہ آور دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔نشئی لوگ اس کے متمنی ہوتے ہیں۔

۲۔کَوْکَبَ الحدیدُ: چمک اٹھنا، چم چم کرنا۔الکَوْکَبُ ج کَوَاکِبُ (فلک) ستارہ، تلوار، پانی، گرمی کی شدت، لوہے کی چمک دمک سردار قوم، شہسوار، قید خانہ، ہتھیار بند آدمی، باغ کے شگوفے بقرب البلوغ لڑکا، آنکھ کا پھولا، فوج کا یونٹ۔کَوْکَبُ البئر: کنوئیں کا سوت، کہا جاتا ہے۔ذَھَبُوْا تَحْتَ کُلِّ کَوْکَبٍ: وہ منتشر ہوگئے۔یوم ذو کواکب: سختیوں والا دن یعنی مصائب اس قدر طویل اور سخت ہو گئے حتی کہ دن کو تارے نظر آنے لگے۔الکَوْکَبَۃُ (فلک): ستارہ، ایک کلی۔المُکَوْکَبُ: آنکھ کے پھولے والا۔

۳۔الکَوْکَبُ ج کَوَاکِبُ: لمبی نباتات، پہاڑ، چیز کا بڑا حصہ۔الکَوْکَبَۃُ: جماعت۔

۴۔کَوْکَی کَوْکَاۃً الرجُلُ: تیز چلنے میں جھومنا۔پستہ قد کا دوڑنا۔الکَوْکَاۃُ والکُوَاکِیَۃُ: پستہ قد۔المُکَوْکَی: بے برکت، کیکڑا۔

○ کولومبو: کولمبو، سیلون کا دارالحکومت۔

○ کولومبیا: ایک ملک کا نام

○ کولونیا: ہلکی خوشبو کی ایک قسم۔

○ کولیرا: ہیضہ

○ کُولیس جمع کَوَالِیس: سٹیج وغیرہ کے پیچھے منقش پردہ وراءَ الکوالیس: پس پردہ، سٹیج کے پیچھے (مجازاً)

○ کوالِین: کالون کی جمع: (دروازے کا) قفل۔

کول: تَکَوَّلَ القومُ: اکٹھا ہونا۔تَکَوُّلَ و اِنکَالَ اِنکِیَالًا القومُ علیہ: کسی پر مار پیٹ اور گالی گلوچ سے ٹوٹ پڑنا۔تَکَاوَلَ الرجُلُ: کوتاہی کرنا۔
الکُوْلَۃُ (ن): استوائی افریقہ کا ایک درخت جو گرم خطوں میں کاشت کیا جاتا ہے اس کا پھل جو جوزہ الکُوْلا کہلاتا ہے۔دل اور پٹھوں کی تحریک ونشاط کے مادہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔الکَوْلانُ والکُوْلانُ واحد۔کُوْلانَۃٌ: (ن) بردی نام کی ایک گھاس۔الاَکْوَلُ ج اَکَاوِلُ: پہاڑ کی مانند بلند زمین۔

○ کوف: تکوّف: بھیڑ کی شکل میں اکٹھا ہونا الکُوفۃ: (عراق کے ایک شہر کا نام، کوفہ، کوفی: کوفی خط، الکوفیون: کوفہ کے نحوی۔

○ کُوْک: پتھر کا کوئلہ، نیم سوختہ کوئلہ

○ کَوْکَبٌ جمع کَوَاکِبُ: ستارہ (مجازاً) فلمی ستارہ، سٹیج وغیرہ کا ستارہ، آنکھ کا پھولا، کوکب سینمائی: فلم سٹار۔کَوْکَبَۃٌ: ستارہ، گروہ، فوجی دستہ، پارٹی جمع کَوَاکِبُ: زرہ پوش یونٹوں اور سواروں کے رسالہ کا دستہ (سکواڈرن) کَوْکَبِیٌّ: ستارہ شکل کا ستارہ جیسا، ستارے کی مانند، ستاروں کا، ستاروں سے بھرا ہوا، ستاروں کے متعلق۔

○ کَوْکْتِیل: کوکٹیل، ملی جلی شراب، ملے جلے پھلوں کا رس۔

کوم: ۱۔کَوَّمَ تَکْوِیْمًا التراب: مٹی کو جمع کرنا اور تودہ تودہ کرنا۔ــ المتاعَ: سامان کا ڈھیر لگانا۔ــ ثیابَہٗ فی ثوبٍ واحدٍ: کپڑوں کو ایک کپڑے میں باندھنا۔اِکْتَامَ اکتیامًا الرجُلُ: پیر کی انگلیوں کے اطراف پر بیٹھنا۔الکُوْمُ ج اَکْوَامٌ: اونٹوں کا گلہ، بلند جگہ، (ٹیلہ کی طرح)۔الکُوْمَۃُ والکَوْمَۃُ ج کُوَمٌ واَکْوَامٌ: مٹی وغیرہ کا ڈھیر۔الاَکْوَمُ: مونث کَوْمَاءُ ج کُوْمٌ: بلند، بڑی کوہان والا اونٹ۔

۲۔الکومِسْیُون: آڑھت، دلالی، کمیشن۔فی اصطلاح السیاسیین: (سیاستدانوں کی اصلاح میں): ایک باقاعدہ گروہ جو سیاسی اور اتحادی دعووں پر غور کے بعد ان کے بارے میں رپورٹ مرتب کرتا ہے یا فیصلے صادر کرتا ہے۔ (اس کی عربی لجنۃ ہے۔)
الکُوْمِسْیُوْنجِی: اشیاء درآمد کرنے والا۔ (ترکیہ)

○ کَوَمَ ہ: کا ڈھیر لگانا، کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔تَکَوَّمَ: ڈھیر لگنا، جمع ہونا، ڈھیر ہوجانا۔کَوْمٌ جمع اَکْوَامٌ و کِیمان: ڈھیر، انبار، پہاڑی، کیمان: بالخصوص، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کَوْمَۃٌ و کُوْمَۃٌ: جمع کُوَمَاتٌ و کُوَمٌ: ڈھیر، انبار، تودہ۔کومۃ الحطب: چِتا۔

○ کوماندان: کمانڈنٹ، کمانڈر

○ کومساری: دیکھو کمساری

○ کومسیونجی: آڑھت بیوپاری

○ کومودینو: بیڈ کے پہلو کی میز

○ کومیدیا: طربیہ، بزمیہ، کامیڈی Comedy

کون: ۱۔کَانَ یَکُوْنُ کَوْنًا و کِیَانًا و کَیْنُوْنَۃً الشیئُ: نو پید ہونا، واقع ہونا، پایا جانا، ہونا۔کان افعال ناقصہ میں سے ہے مبتداء اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور خبر کو مبتدا کے لئے ثابت کرتا ہے اور مبتدا کو کان کا اسم کہا جاتا ہے، جیسے کان زیدٌ قائمًا اور کبھی تامہ ہوتا ہے فقال اللّٰہ لِیَکُنْ نُوْرٌ فَکَانَ نُوْرٌ اور یہ ثبت کے معنی میں آتا ہے جیسے، کَانَ اللّٰہُ وَلَا شَیْئَ مَعَہٗ اور حضر کے معنی میں بھی جیسے وَاِنْ کَانَ ذُوْعُسْرَۃٍ فَنَظِرَۃٌ اِلٰی مَیْسَرَۃٍ اور وقع کے معنی میں جیسے مَاشَاءَ اللّٰہُ کَانَ اور ینبغی کے معنی میں جیسے مَاکَانَ لَکُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَھَا: اور استقبال کے معنی کے لئے جیسے یَخَافُوْنَ یَوْمًا کَانَ شَرُّہٗ مُسْتَطِیْرًا اور زمانہ ماضی کے لئے جیسے کَانَ فِی المَدِیْنَۃِ تِسْعَۃُ رَھْطٍ زمانہ حال کے لئے جیسے کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اور کبھی دوام واستمرار کا فائدہ دیتا ہے جیسے کَانَ اللّٰہُ غَفُوْرًا رَحِیْمًا اور کہا جاتا ہے صَارَ اِلٰی کَانَ یعنی مرگیا، تثنیہ اور جمع میں کہا جاتا ہے صَارَا اِلٰی کَانَا اور صَارُوْا اِلٰی کَانُوْا اور کُنْتُ الکُوْفَۃَ یعنی میں کوفہ میں تھا مَنَازِلُ اَقْفَرَتْ کَأَنْ لَمْ یَکُنْھَا اَحَدٌ: منازل خالی ہوگئے گویا جیسے کہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، وکُنَّاھُمْ بمعنی کُنَّاھُمْ دَخَلَ الامو فی خبر کان یعنی معاملہ گزر گیا۔کَوَّنَ تَکْوِیْنًا الشَّیْئَ: کو پیدا کرنا، ایجاد کرنا۔تَکَوَّنَ: پیدا ہونا، ایجاد ہونا۔الکَائِنُ (فا): ہونے والا، واقعہ، حادثہ۔الکَائِنَۃُ ج کَائِنَاتٌ وکَوَائِنُ: الکائن کا مونث، حادثہ۔الکَائِنَاتُ: موجودات۔الکَوْنُ (مص) عالم وجود۔الکَوْنِیُّ۔کَوْنٌ کی جانب منسوب۔الکُوْنِیُّ: لمبی عمر والا۔الکِیَانُ (مص) طبیعت فطرت۔التَّکْوِیْنُ: معدوم کو عدم سے وجود میں لانا۔سفر التکوین: بائبل کی پہلی کتاب (موسیٰ کے پانچ سفروں میں سے پہلا

المو سوم کتاب پیدائش)۔۔۔ ج تکاوِین: صورت، ہیئت۔الکُنتِیُّ ج کُنتِیُّونَ و الکُنتُنِیُّ ج کُنتُنِیُّونَ: عمر رسیدہ گویا کہ وہ اپنے قول۔کُنتُ فِی شَبَابِی کَذَا و کَذَا: کی طرف منسوب کیا گیا ہے، تم کہتے ہو۔اَصبَحتُ کُنتِیًّا: یعنی میں بڑی عمر والا ہو گیا۔کُنتُنِیُّ میں نون وقایہ ہے تاکہ ضمہ ظاہر ہو جائے جس طرح کہ ضَرَبَنِیُ میں فتح ظاہر ہونے کے لئے نون لاتے ہیں۔المَکَانُ ج اَمَاکِنُ و اَمکِنَۃٌ و اَمکُنٌ: (اخیر والا نادر ہے) کسی شے کے ہونے کی جگہ۔المکانۃ جمع مکانات: موضع، جگہ، مرتبہ۔کہا جاتا ہے۔مَکُونٌ فِیہِ: یعنی اس میں موجود۔المَکِینُ: مرتبہ والا، کہا جاتا ہے۔فُلَانٌ مَکِینٌ عِندَ فُلَانٍ: فلاں فلاں کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے۔

۲۔کَانَ یَکُونُ کَونًا و کِیَانًا علی فلان: کا ضامن ہونا، ذمہ دار بننا۔کُنتُ اَکتِیَانًا بفلان و علیہ: کا ضامن ہونا، ذمہ دار بننا۔الکِیَانَۃُ: کفالت۔

۳۔تکَوَّنَ: متحرک ہونا۔

۴۔اِستَکَانَ اِستِکَانَۃً لفلان: سے فروتنی کرنا، عاجزی کرنا۔

۵۔کَیوَانٌ (فلک) فارسی میں زحل کا نام۔

○ کَانَ۔۔ کَونًا و کِیَانًا و کَینُونَۃً: ہونا، واقع ہونا۔

کان ل: کا ہونا، کا حق ہونا، کی ملک ہونا، کا رکن یا فرد ہونا۔کان لہ بیتٌ: اس کا ایک گھر تھا، وہ ایک گھر کا مالک تھا۔۔ل: کے لئے صحیح آدمی ہونا، کا اہل ہونا۔۔ من: کے متعلق ہونا، کا جزو ہونا۔۔۔ علی: کا فرض ہونا، پر واجب ہونا، لازم یا لازمی ہونا۔۔الی: کو دینا، سونپا یا تفویض کیا جانا، کا حصہ ہونا، پر چھوڑا جانا۔علی اَتَمِّ مایکون: انتہائی قابل فہم مکمل انداز میں، مکمل طور پر ممکن۔اقوالھم اقرب ما تکون الی الصواب: ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، صداقت کے بڑی حد تک قریب ہیں۔لم یکن ل۔ یما کان ل: وہ کیلئے صحیح آدمی نہیں ہے یا نہ تھا، وہ کا اہل نہ تھا، کے قابل نہ تھا، غالباً ہونے والا نہیں یا نہ تھا۔لم یکُن لِیَصعُبَ علیہ اَن: اس کے لئے مشکل نہ ہوتا کہ وہ، کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ نہ کر سکتا۔ما کان منہ الا ان۔ لم یکن منہ الا ان: اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ...... کرنے کے لئے اس کے پاس کچھ نہ تھا مگر یہ کہ...... اس نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ما کان لہ ان: اس کے لئے کچھ کرنا، ناممکن ہے یا تھا۔وہ کے قابل نہیں یا نہ تھا۔اَصبَحَ فی خبرِ کان: غائب ہو جانا، کھو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، تقویم پارینہ ہونا، متروک ہونا، ماضی سے متعلق ہو جانا۔کان و کان: رباعیوں پر مشتمل نظم کی ایک مقبول صورت۔

کَوَّنَ ہ: کو بنانا، تخلیق کرنا، وجود میں لانا، صورت دینا، کی تشکیل کرنا۔تَکَوَّنَ: پیدا ہونا، صورت پانا، وجود میں آنا، بننا، صورت پذیر ہونا، ظہور میں آنا، بڑھنا، پختگی یا تکمیل کو پہنچنا۔۔۔ من: سے تیار ہونا، پر مشتمل ہونا، سے بنایا جانا۔اِستَکَانَ: منکسر المزاج ہونا، عاجز ہونا، سخت بری حالت میں ہونا، اطاعت اختیار کرنا، تسلیم کرنا، معافی مانگنا، ذلیل ہونا، مطیع ہونا۔۔ الی: کا ہو رہنا۔کَون جمع اکوان: وجود، زندگی، ہستی، حادثہ، وقوع۔الکون: دنیا، عالم موجودات، کائنات، کون و مکان۔الکون الاعلی: باری تعالی، اللہ تعالی۔لِکَونِہِ مجنونًا: کیونکہ وہ پاگل ہے۔مَعَ کَونِہِ مجنونًا: اگرچہ (ہر چند، باوجودیکہ، گو) وہ پاگل ہے۔کَونِی: کائنات، نظام کائنات سے متعلق، کائناتی، کونی۔الاشعۃ الکونیۃ: کائناتی شعاعیں، فضائی کرنیں۔نظام کونی: نظام کائنات، کارخانہ قدرت۔کیان: وجود، ہستی، جوہر، اصل، طبیعت۔الیَکُون: مجموعہ، میزان۔مَکان جمع اَمکِنَۃ و اَماکِن: جگہ، موقع، محل، جائے وقوع، محل وقوع، عبارت کا ٹکڑا، خطہ، حلقہ، موقع، آبادی (ریل گاڑی کے ڈبہ میں) نشست، حیثیت، اہمیت، وزن، فضائے بسیط، موجودگی، صورت حال، شرائط، حالات۔مَکانَ۔۔۔: کی جگہ، کی جائے۔لو کُنتُ مکانَکَ: اگر میں تمہاری جگہ ہوتا، اگر میں تو ہوتا۔مکانَہٗ: موقع پر، فوراً۔مکانَکَ: رک جا۔فی کُلِّ مکان: ہر جگہ۔اَخلَی مکانًا: راستہ یا جگہ دینا۔اِحتَلَّ مکانًا مَکِینًا: مضبوط حیثیت کا حامل ہونا۔ھو من الشجاعۃِ بمکان: وہ انتہائی بہادر ہے۔ذلک من الأھمیۃ بمکان: یہ بہت اہم ہے۔ھذہ النظریۃُ مِنَ الضعفِ بمکان: یہ نظریہ کسی حد تک کمزور ہے۔مکان الشیءِ من نفسہ: کسی کے لئے کسی چیز کی اہمیت، کسی چیز کی اہمیت جو وہ کسی کے دل میں رکھتی ہو۔مکان الحادث: موقع واردات، کارروائی کا مقام۔اَماکِن وَعرَۃ: سخت ناہموار علاقہ۔مَکانَۃ جمع مکانات: جگہ، محل، موقع، حیثیت، اثر، رتبہ، قدر و منزلت، عظمت۔مکانۃ الصدر: برتری، اولیت، سبقت، فوقیت، ترجیح۔مکانی: مقامی، لوکل۔مکانیۃ: مکانیت۔تکوین: بنانا، تشکیل دینا، صورت دینا، وضع کرنا، بناوٹ، صورت، تشکیل، پیدائش، تخلیق، آفرینش، ایجاد، ابتدا، آغاز۔۔۔ جمع تکاوین: (چٹانوں کی) بناوٹ، ساخت۔جمیل التکوین: خوش شکل، دیدہ زیب۔سفر التکوین: کتاب پیدائش (بائبل میں)۔تَکَوُّن: ابتداء، آغاز، پیدائش، ظہور، اصل، ابھرنا، سر نکالنا، بڑھنا، بالیدگی، ترقی، ترتیب، بناوٹ۔اِستکانۃ: اطاعت، فرمانبرداری، جمود، خاموشی سے برداشت، دستبرداری، تابع داری۔کائن: شخص، موجود، زندہ، واقع، حسی، وجود، کل ذی روح، حیوان، انسان، بشر، جانور۔۔ جمع کائنات: چیز، موجود، جیتا جاگتا، زندہ۔الکائن المُطلَق: واجب الوجود، قائم بالذات، حاکم علی الاطلاق، اللہ تعالی۔الکائنات: پیدا شدہ چیزیں، کائنات، کون و مکان، دنیا، دنیا والے۔کائنًا من کان: جو کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی ہو۔کائنًا ما کان: یہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو۔مُکَوِّن: پیدا کرنے والے، تخلیق کرنے والا۔مُکَوَّن: بنایا ہوا، پیدا کیا ہوا، تخلیق شدہ۔۔ من: سے بنا ہوا، سے مرکب، پر مشتمل، سے تشکیل پایا ہوا، صورت دیا ہوا۔مُستَکِین: ذلیل کیا ہوا، کچلا ہوا، فرمانبردار، اطاعت شعار، انقیاد پذیر، منقاد، راضی برضا۔

○ کونتراتو: اتفاق، موافقت، معاہدہ، عہد نامہ، میثاق، ٹھیکہ۔

○ کونکُرادَتُو: مقروض اور قرض خواہ کے مابین تصفیہ، مصالحت، راضی نامہ۔

○ کُونیاک: کنیاک: فرانسیسی برانڈی (انگور کی شراب)

کوہ: کَاہَ یَکُوہُ کَوہًا الشیءَ: کا منہ سونگھ کر بو معلوم کرنا۔کَوِہَ یَکوَہُ کَوَھًا: متحیر ہونا۔کَوَّہَ النارَ: آگ بھڑکانا۔تَکَوَّہَ علیہ الامرُ: کیلئے وسیع ہونا اور متفرق ہونا۔

کوی: ۱۔کَوَی یَکوِی کَیًّا فلانًا: لوہے وغیرہ سے کی جلد کو داغ دینا۔۔ الثیاب: کپڑے پر استری کرنا۔تِ العقربُ فلانًا: کو بچھو کا ڈسنا، تم کہتے ہو۔کَوَانِی بِعَینِہِ: یعنی اس نے مجھے تیز نظر سے دیکھا۔اَکوَی اِکوَاءً: زبان سے انسان کو تکلیف پہنچانا۔کَاوَی مُکَاوَاۃً الرجلَ: باہم گالی گلوچ کرنا۔اِکتَوَی: داغ لگنا۔۔الرجلُ: اپنے آپ کو داغ لگانا۔اِستَکوَی فلانًا: سے داغ لگانے کو کہنا۔۔ الرجلُ: کے داغنے جانے کا وقت قریب ہونا۔الکَوَّاءُ: اسم مبالغہ، بد زبان، بہت گالی بکنے والا۔الکَیَّۃُ: کَوی سے اسم مرہ، داغ لگانے کی جگہ۔المِکوَاۃُ ج مَکَاوٍ: استری۔المکواۃ و الکاویاءُ: بکریوں پر نشان لگانے کا آلہ۔

کادیا۔

۲۔ کَوّٰی فی دارہ کُوًی: اپنے گھر میں روشندان بنانا۔ تَکَوّٰی تَکَوِّیًا الرجُلُ: تنگ جگہ میں داخل ہونا اور سمٹنا۔ الکَوُّ الکَوَّۃُ والکُوَّۃُ ج کِوَاءٌ و کُوًی و کَوَّاتٌ و کُوَّاتٌ: روشندان، کُوَی النھر۔ دریا کے نالے۔

۳۔ اکْتَوٰی الرجُلُ: اپنی آپ کی تعریف کرنا ان صفات سے جو فی الحقیقت اس میں نہ ہوں۔

کی: کَیْ: حرف تعلیل ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اَنْ مقدرہ کی وجہ سے نصب دیتا ہے جیسے جَاءَ کَیْ یَسْئَلَ یعنی وہ آیا تاکہ سوال کرے، اور مَا استفہامیہ پر داخل ہوتا ہے جیسے کَیْمَ جِئْتَ: یعنی تم کیوں آئے ہو؟ اس صورت میں یہ حرف جر ہوگا، وقف کی صورت میں اس کے ساتھ ھَا متصل ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کَیْمَہْ جیسا کہ لِمَہْ میں کہا جاتا ہے اور یہ ما مصدریہ پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے یُرجَی الفَتٰی کَیْمَا یَضُرُّ وَیَنْفَعُ۔ اور اَنْ مصدریہ مقدرہ پر وجوبًا داخل ہوتا ہے جیسے جِئْتُکَ کَیْ تُکْرِمَنِیْ: میں تمہارے پاس اس لئے آیا کہ تم میرا اکرام کرو اور اکثر اس کا استعمال لام کے بعد ہوتا ہے جیسے جِئْتُ لِکَیْ تُکْرِمَنِیْ۔

○ کَوٰی۔ کَیًّا۔ کو جلانا، داغنا، جھلس دینا۔ ۔ ہ: کو داغنا، پر پکا نشان لگانا۔ ۔ ہ: پر استری کرنا۔ ۔: (تیزاب وغیرہ) کا جلانا، کاٹنا (بچھو کا) ڈنک مارنا۔ اِکْتَوٰی: جلنا۔ داغا جانا، استری کیا جانا، خود کو جلانا، اپنی جلد جلانا۔ کَیّ: جلانا، داغنا، داغنے کا لوہا، استری کرنا، کَیَۃ: داغ، کَوَّاء: بدگو، مفتری، استری کرنے والا۔ کَوَّایَۃ: استری کرنے والی۔ کَوِیَۃ سلوٹ، شکن (پتلون کی)۔ مِکْوَاۃ و مَکْوًی جمع مَکَاوٍ: استری، داغنے کا لوہا۔ مَکْوَجِی: استری کرنے والا، کَاوٍ کیمیاوی عمل سے جلانے والا۔ کَی و لِکَی: تاکہ (کرنے) کے لئے کی غرض سے۔ کَیْ لَا و لِکَیْ لَا: تاکہ نہ، ایسا نہ ہو، مبادا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کَیْمَا و لِکَیْمَا: تاکہ۔

○ کِیت: ہندوستانی لباس کا سامان۔

کاء: کَاءَ یَکِیْئُ کَیْئًا عن الامر: سے اعراض کرنا۔ الکَاءُ والکَیْئُ والکَاءَۃُ والکَیْئَۃُ: بزدل۔

کیت: کَیَّتَ الوعاءَ: برتن بھرنا۔ ۔الجھازَ: سامان تیار کرنا اور آسان کرنا۔ کَیْتَ و کَیْتَ۔ اور کبھی کَیْتِ و کَیْتُ مکسورًا کہتے ہیں اور ان سے بات کا کنایہ کیا جاتا ہے تم کہتے ہو۔ قَالَ فُلَانٌ کَیْتَ وَکَیْتَ: یعنی فلان نے ایسا ایسا کہا، اور کَیْتَ کَیْتَ واو کے بغیر بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کا استعمال مکرر ہی ہوتا ہے۔

کیح: کَاحَ یَکِیحُ کَیْحًا السیفُ فیہ: میں تلوار کا اثر کرنا، کہا جاتا ہے مَاکَاحَ فِیْہِ السَّیْفُ: یعنی تلوار نے اس پر کام نہیں کیا۔ اَکَاحَ اِکَاحَۃً ہٗ: کو ہلاک کرنا۔ الکَیِّحُ: سخت، موٹا (مذکر و مؤنث کیلئے)۔ کَیْحٌ اَکْیَحُ: سخت موٹا۔

○ کَیْتَ و کَیْتَ اور کَیْتِ و کَیْتُ: فلاں فلاں، ایسا ایسا، اس اس طرح، یوں یوں۔

کید: ۱۔ کَادَ یَکِیْدُ کَیْدًا ہٗ: سے مکر کرنا، فریب کرنا، کو مکر سکھلانا، سے جنگ کرنا، سے برا ارادہ کرنا۔ الشیئَ: کو تیار کرنا۔ لِفُلان: کیلئے حیلہ کرنا اور کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ یَکِیْدُ اَمْرًا مَا اَدْرِیْ مَاھُوَ: جبکہ وہ پھسلائے اور فریب دے۔ وَبَلَغُوا الاَمْرَ الَّذِیْ کَادُوْا یعنی جس امر کا وہ ارادہ کرتے تھے اس کو انہوں نے حاصل کرلیا۔ کَایَدَ مُکَایَدَۃً ہٗ: سے مکر و فریب کرنا۔ تَکَایَدَ الرجُلان: ایک دوسرے کے ساتھ مکر کرنا۔ اِکْتَادَ اِکْتِیَادًا ہٗ: کے ساتھ حیلہ کرنا، مکر و فریب کرنا۔ الکَیْدُ (مص) ج کِیَادٌ: مکر، خباثت، حیلہ سازی اور کوشش کرنا، لڑائی کیونکہ اس میں بھی حیلہ سازی کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے۔ غَزَا فَلَمْ یَلْقَ کَیْدًا یعنی اس نے لڑائی نہیں کی لَا کَیْدًا وَلَا ھَمًّا: یعنی نہ تو سختی کرتا ہوں اور نہ ارادہ ہی ہے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کو ناپسندیدہ کام پر اکسایا جائے۔ الکَیَّادُ: بہت مکار۔ المَکِیْدَۃُ ج مَکَایِدُ کَادَ سے اسم، مکر، دھوکا، خباثت، فراڈ۔

۲۔ کَادَ یَکِیْدُ کَیْدًا الزندُ: چقماق کا آگ نکالنا۔ ۔ بنفسہ: جان دینا۔ ۔الرجُلُ: قے کرنا۔ الکَیْدُ ج کِیَادٌ: قے کرنا۔

○ کَادَ۔ کَیْدًا و مَکِیْدَۃً ہ: کو دھوکا دینا، الو بنانا، حکمت علی سے نیچا دکھانا۔ ۔ل: کسی شخص یا چیز کو ہوشیار جوڑ توڑ سے نقصان پہنچانا۔ ۔ل: کیلئے جال بچھانا، کے زوال کا منصوبہ تیار کرنا، کے خلاف سازش کرنا۔ کَایَدَہٗ: بمعنی کَادَہٗ: نیز کَایَدَہٗ: کے ساتھ دورخی سے کام لینا۔ کَیْد جمع کِیَاد: چال، تدبیر، حیلہ، چالبازی، داؤں، عیاری، دھوکا، داؤ پیچ۔ مَکِیْدَۃ ج مَکَایِد: چال، دھوکا، فریب، تیز کارروائی، چالاک رسائی، ہوشمند پالیسی، داؤں، سازش، ساز باز، جوڑ توڑ، تدابیر، خفیہ منصوبے، سکیمیں، اندر ہی اندر گٹھ جوڑ۔

کیر: ۱۔ کَارَ یَکِیْرُ کِیَارًا الفرسُ: دوڑنے میں دم اٹھانا۔ اَکَارَ علیہ یضربہ: کو مارنے لگنا۔ تَکَایَرَا: ایک دوسرے کو مارنا۔ الکِیْرُ ج اَکْیَارٌ و کِیَرَۃٌ: لوہار کی بھٹی۔ الکَیِّرُ: دوڑنے میں دم اٹھانیوالا گھوڑا۔

۲۔ کِیْرِیَالِیْسُوْنُ: یہ یونانی لفظ ہے جو کیر (سید، سردار) اور الیسون (رحم دل) سے مرکب ہے یعنی رحم دل سردار۔

○ کِیر جمع اَکْیَار و کِیرَان: دھونکنی۔

○ کِیرُوسِین: مٹی کا تیل۔

کیس: ۱۔ کَاسَ یَکِیْسُ کَیْسًا و کَیَاسَۃً الغلامُ: زیرک ہونا۔ ۔ فلانًا: پر دانائی میں غالب آنا۔ کَیَّسَ تَکْیِیْسًا ہٗ: کو زیرک و ذہین بنانا۔ کَایَسَ مُکَایَسَۃً ہٗ: کا دانائی میں مقابلہ کرنا۔ ۔ ہ فی البیعِ: کا بیچنے میں مقابلہ کرنا۔ اَکَاسَ اِکَاسَۃً و اَکْیَسَ اِکْیَاسًا: ذہین اولاد والا ہونا۔ تَکَیَّسَ: دانائی ظاہر کرنا، بتکلف دانا بننا۔ الکَیْسُ (مص) عقل، سمجھ، دانائی، زیرکی، سخاوت، کاموں میں سنجیدگی۔ الکِیَاسَۃُ (مص): مفید چیز کے استخراج کی قدرت۔ الکَیِّسُ ج اَکْیَاسُ و کَیْسٰی مونث کَیِّسَۃ ج کَیَاسٌ: عقل مند، دانا، اچھی سمجھ بوجھ اور ادب والا، عوام کُوَیِّسْ کہتے ہیں۔ المُکَیَّسُ: سمجھدار۔ الاَکْیَسُ مونث کَیْسٰی و کُوْسٰی ج کِیْسٌ: اسم تفضیل عوام اَکْوَسُ کہتے ہیں۔ المِکْیَاسُ ج مَکَایِیْسُ من النساء: وہ عورت جو عقل مند بچوں کو جنم دے۔

۲۔ کَیَّسَ ہٗ: کو تھیلی یا بٹوہ میں رکھنا۔ الکِیْسُ ج اَکْیَاسٌ و کِیَسَۃٌ: تھیلی، بٹوہ۔ ۔ کِیْسُ البَوْغِ اور اسے کِیْسُ الغُبَیْرَاتِ (ز) بھی کہتے ہیں۔ مستورات الزھر کے خلیوں کی تھیلی دیکھو مستورات الزھر۔

۳۔ الکَیْسُ: جماعت۔ کَیْسَانُ (الف لام کے بغیر) غَدْر کے لئے اسم کہا جاتا ہے۔ دَکِبَ فُلَانٌ کَیْسَانَ: جب کوئی بے وفائی کرے تو اس کے لئے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔

○ کیس: کَاسَ ۔ کِیَاسَۃً: ہوشیار ہونا، طباع ہونا، ہونہار ہونا، زیرک ہونا، چالاک ہونا، ذہین ہونا۔ نفیس ہونا، شاندار ہونا، دلکش ہونا، حسین ہونا، خوبصورت ہونا، خوش انداز، خوبرو ہونا، طرح دار ہونا، وضع دار ہونا۔ کَیْس: ہوشیاری، زیرکی، تیزفہمی، نزاکت، لطافت، باریک بینی، نفاست، دلکشی، خوش اسلوبی، خوبصورتی، دلربائی، خوش وضعی، لطافت، کِیس: مذکر و مونث جمع اَکْیَاس و کِیَسَۃ: تھیلا، بورا، تھیلی، بٹوا، ترکی تولیہ۔ کِیس الوسادۃ: تکیہ کا غلاف، کِیْسُ الصفراء: پت، صفراء، علی کِیْسِہٖ: اس کے خرچ

پر۔ کَیِّس جمع کَیاس و کَیِّسی مونث کَیِّسَۃ جمع
کِیاس: زیرک، ہوشیار، چالاک، تیزفہم، سمجھدار،
دانشمند، شاطر، ماہر، نفیس، تیز، شاندار، خوش پوش، خوش
وضع، خوبصورت حسین، دلکش، صاحب طرز، خوش
وضع۔کِیاسَۃ: چالاکی ہوشیاری، ذہانت، تیزفہمی،
مہارت، زیرکی، داشمندی، کائیاں پن، فراست، خوش
اخلاق، شائستگی، تہذیب، حسن، جمال، طرحداری،
وضع داری۔اَکیَس مونث کُیسَی و کُوسَی جمع
کِیس: زیادہ زیرک، زیادہ چالاک، زیادہ ماہر، زیادہ
وضع دار، زیادہ شاندار، زیادہ نفیس، زیادہ نفاست
پسند۔مُکَیِّس و مُکَیِّساتی: مالشیا، جسم کی مالش
کرنے والا۔

کیص ۱۔کَاصَ یَکِیصُ کَیصًا و کُیُوصًا و کَیصَانًا
الطعام: کو تنہا کھانا۔۔۔ من الطعام والشراب:
بہت کھانا پینا، کہاجاتا ہے کِصنا عِندَہُ مَاشِئنَا: ہم
نے اسکے پاس جو جی میں آیا کھایا۔الکَیِّصُ (مص):
سخت بخل، بہت کنجوس۔۔۔ رَجُل کِیصٌ و کِیصَی
و کِیصَی و کَیصَی: تنہا اترنے والا، تنہا کھانیوالا اور
کسی کا خیال نہ کرنے والا۔
۲۔کَاصَ یَکِیصُ کَیصًا و کُیُوصًا و کَیصَانًا: کسی چیز
سے عاجز ہونا۔
۳۔کَاصَ یَکِیصُ کَیصًا و کُیُوصًا و کَیصَانًا
الرجلُ: تیز چلنا، کہاجاتا ہے: مرَّ یکِیصُ: وہ جلدی
سے گزرا۔
۴۔کَایَصَ مُکَایَصَۃً الامرَ والعمل: کی مشق کرنا۔
الکِیصُ والکِیِّصُ من الرجال: مضبوط پٹھے والا۔
۵۔الکَیِّصُ: گھٹے ہوئے بدن کا پستہ قد۔الکِیُصُ: پستہ
قد اور موٹے ڈھیلے جسم والا، درشت خو، شرارتی۔

کیع: کَاعَ یَکِیعُ کَیعًا و کَیعُوعَۃً عنہ: کے بارے
میں بزدل ہونا، سے خائف ہونا، صفت کَاعٌ و کَائعٌ
ج کَاعَۃٌ عوام کہتے ہیں کَعِیَ عَنہُ یعنی سے عاجز
آنا۔

کیف: ۱۔کَافَ یَکِیفُ کَیفًا الشیئَ: کو کاٹنا۔کَیَّفَ
الشیئَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔تَکَیَّفَ: ٹکڑے ٹکڑے
ہونا۔اِنکَافَ اِنکِیَافًا الشیئُ: کٹنا۔الکِیفَۃُ ج
کِیَفٌ: کپڑے کا ٹکڑا جس سے دامن کے اگلے حصہ کو
پیوند لگائیں۔
۲۔کَیَّفَ ہٗ: کسی سے حال احوال پوچھنا۔۔۔ الشیئَ: کے
لئے کیفیت معلومہ بنانا۔۔۔ ہٗ فَکَیَّفَ: اس نے اسے
خوش کیا تو وہ خوش ہوگیا (عامیہ) مُکَیَّف: کسی کیفیت
پر ہونا۔الکَیفُ عند الحکماء: کسی چیز کی نارل
حالت جو نہ تقسیم ہونے کا تقاضا کرے نہ ہی اس کی
ذاتی نسبت ہو جیسے سفیدی اور سیاہی۔عندا العامۃ:
مزاج اور سرور۔کَیفَ: اسم مبہم مبنی علی الفتح ہے اور اس
کا اکثر استعمال استفہام کے لئے ہوتا ہے جیسے کَیفَ
زَیدٌ اور کبھی شرط کے لئے آتا ہے کبھی مَا لگاتے ہیں اور
کبھی نہیں لگاتے۔جیسے کَیفَمَا تَصنَعُ اَصنَعُ اور
کَیفَ تَصنَعُ اَصنَعُ اور کہاجاتا ہے۔کَیفَ لِی
بِفُلَانٍ: اس کے جواب میں تم کہتے ہو کُلَّ الکَیفِ
جر کے ساتھ مثل دوسرے معربات کے اور فتحہ کے
ساتھ اپنی حالت پر برقرار رہتے ہوئے۔کَیفِیَّۃُ الشیئِ
ج کَیفِیَّاتٌ: صفت، حالت۔
○ کَیَّفَ ہٗ: کو صورت دینا، تشکیل کرنا، بنانا، کی صورت
بنانا، (سانچے میں ڈھال کر) بنانا۔۔۔ ہٗ/نفسَہٗ: کو
اختیار کرنا، ہم آہنگ بنانا، بدلنا، میں ترمیم کرنا، کے
مطابق بنانا۔۔۔ ہٗ: کو نظام کے تحت لانا، باقاعدہ بنانا۔
۔۔۔ ہٗ: کو خوش کرنا، محظوظ کرنا، (نشہ کا) کو مخمور کرنا،
مدہوش کرنا، حواس باختہ کرنا۔تَکَیَّفَ: صورت پانا،
تشکیل پانا، بننا، شکل اختیار کرنا، بدلنا، مطابق ہونا،
خوش ہونا، ہلکا سا مخمور ہونا، مدہوش ہونا۔۔۔ ہٗ: تمباکو
نوشی کرنا۔کَیفَ حالك؟ تم کیسے ہو؟کیف لا: کیوں
نہیں۔فکیفَ ب: ذرا تصور میں لائیے کتنا زیادہ (یا
کم)۔۔۔کتنا زیادہ، اور کتنا کم۔۔۔کیف ما: کتنا
ہی، کیسا ہی۔کیف ما کان الحال: جو بھی صورت
ہو، بہرحال، بہر صورت۔کَیف: حالت، مزاج،
مزاج کیفیت، ذہن کی حالت، خوشی، اختیار، حق
انتخاب، پسند، جمع کیوف: افیون آمیز، خواب آور یا
نشآور (دوا وغیرہ)۔علی کیفك: آپ کی مرضی پر،
جیسے آپ چاہیں، پسند کریں۔اصحابُ الکَیفِ: جو
پائے سرور لوگ، لذت طلب لوگ۔کَیفِی: خود
مختارانہ، اختیار پر مبنی، سمجھ پر منحصر، اختیاری، کیفیت،
کیفیتی، ماہیتی۔کیفیۃ: طریقہ، انداز، خاصہ، حالت،
جزئیات، تفصیلات، کسی واقعہ کے خاص حالات۔
کیفیۃ العمل: (مشین وغیرہ کا) چلنا۔کیفیۃ
الاستعمال: استعمال کی ہدایات۔تکییف
الھواء: ہوا کو صاف کرکے حسب منشاء سرد یا گرم کرنا
(air Conditioning) مُکَیِّفۃُ الھواء: ایئر
کنڈیشنر۔مُکَیِّفات: بیہوش کرنے والی دوائیں،
نشہ آور چیزیں۔

کیك: الکَیکَۃُ ج کَیاکِی: انڈہ اور اس کی تصغیر:
کُیَیکَۃٌ و کُیَیکِیَۃٌ
○ کِیکَۃ و کِیکَا: آنکھ مچولی۔
○ کَالَ ۔۔۔ کَیلًا و مَکَالًا و مَکِیلًا ہٗ: کو تولنا، ناپنا، کا
وزن کرنا۔۔۔ ہٗ ب: کو ناپ کرکے مقابلہ کرنا، کو کے
پیمانہ سے ناپنا، تولنا۔۔۔ ہٗ ل: کچھ کسی کو دینا۔کَالَ لہ
الشتائم: کو ڈھیر ساری گالیاں دینا۔کَالَ لہ
اللطمات: کی پٹائی کرنا۔کَایَلَ ہٗ: سے برابر کا بدلہ
لینا۔کَیل جمع کَیال: پیمانہ، خشک پیمانہ، رکھنے کا
ظرف۔کَیلَۃ جمع کَیلات: ایک خشک پیمانہ۔کَیلی
و مَکِیل: حجم ناپنے والا۔کَیّال: اناج ناپنے والا، صحیح
ناپ کا تعین کرنے والا، مالک، آقا۔الموازین و
المکاییل: پیمائش ناپ تول کرنے کے اوزار۔کیلو
و کیلو جرام جمع کیلو جرامات: کلوگرام۔
○ کِیلُوسیکل جمع کیلو سیکلات: کلوسیکل
(ریڈیو)
○ کِیلُومِتر جمع کیلو مترات: کلومیٹر۔
○ کیلوواط: کلوواٹ
○ کیلون بمعنی کالون: گیلن۔

کیل: ۱۔کَالَ یَکِیلُ کَیلًا و مَکِیلًا و مَکَالًا القمحَ
وغیرہ: گیہوں وغیرہ کو ناپنا، تولنا اور یہ کبھی دو مفعولوں
کی طرف متعدی ہوتا ہے جیسے کِلتُ زَیدًا الطَّعَامَ:
اور کبھی مفعول اول پر لام داخل ہوتا ہے جیسے کِلتُ
لِزَیدٍ الطَّعَامَ۔
کَالَ الدراھمَ: کو تولنا۔الشیئ بالشیئ: کا سے اندازہ
کرنا کہاجاتا ہے ھٰذَا طَعَامٌ لَا یَکِیلُنِی: یعنی اس
پیمانہ کا غلہ میرے لئے کافی نہیں ہے۔کَیَّلَ تکییلًا
القمح وغیرہ: گندم وغیرہ ناپنا۔کَایَلَ مُکَایَلَۃً
ہٗ: دوسرے کے قول یا فعل کی مانند کہنا یا کرنا۔کو گالی دینا
اور بڑھ جانا، کہاجاتا ہے۔کَایَلتُ فُلَانًا: یعنی اس
نے میرے لئے اور میں نے اس کے لئے ناپا۔دونوں
مکایلان کہے جائیں گے اور کہاجاتا ہے۔کَایَلَ الفرسُ
الفرسَ فِی الجَرِیِ: یعنی ایک گھوڑے نے دوڑنے
میں دوسرے گھوڑے کا مقابلہ کیا، اور کہاجاتا ہے۔
کَایَلنَاھُم صَاعًا بِصَاعٍ: یعنی ہم نے ان کو پورا پورا
بدلہ دیا۔تَکَایَلَ الرجلان: گالی اور کینہ میں ایک
دوسرے کا مقابلہ کرنا، ایک کا دوسرے کے لئے ناپنا۔
اِکتَالَ اِکتِیَالًا منہ وعلیہ: اپنے لئے ناپنا۔
الکَیلُ (مص) ج اَکیَالٌ: ناپنے کا آلہ۔الکَیلَۃُ ج
کَیلَاتٌ: کال سے اسم مرہ، ناپنے کا برتن۔۔۔ فی
بر الشام: دو مد کا پیمانہ۔الکِیلَۃُ کَالَ کا اسم اور اسم
نوع۔عرب کی ضرب الامثال میں ہے اَحَشَفًا
وَسُوءُ کِیلَۃٍ: یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی
دوسری باتوں کو جمع کرے۔مراد یہ ہے کہ بری کھجور بھی

اور پھر اس پر بری تول بھی۔ الکِیَالَۃُ: ناپنے کا پیشہ، ناپنے کی اجرت۔ الکَیَّالُ: وہ شخص جو ناپنے کا پیشہ اختیار کرے۔ المِکْیَلُ والمِکْیَلَۃُ ج مَکَایِل والمِکْیَالُ ج مَکَایِیْلُ: جس سے ناپا جائے۔ المَکِیْلُ: جسے ناپا جائے۔ المَکْیُوْلُ: ناپا ہوا آلَۃُ الکَیْلِ: ترازو (عامیہ)

۲۔ کَالَ یَکِیْلُ کَیْلًا الزندُ: چقماق کا بے آگ ہونا۔ کَیَّلَ الرجُلُ: بزدل ہونا۔ تَکَیَّلَ الرجُلُ: میدان جنگ میں آخری صف میں کھڑا ہونا۔ الکَیُوْلُ ج اَکْیَال: چنگاری جو چقماق سے گرے۔ الکَیُّوْلُ: میدان جنگ میں آخری صف، اس کو چقماق کے بے آگ ہونے سے اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ جنگ کی آخری صف میں کھڑا ہونے والا بھی لڑائی نہیں لڑ سکتا) بزدل، اونچی زمین، اونچی جگہ پر کھڑا ہوا۔ نگران۔ والکَیْلُ: چنگاری جو چقماق سے گرے

۳۔ الکَالُ: ایک ٹیڑھا سا ہتھیار جو قلعہ گرانے کے کام آتا ہے (فارسیہ)

۴۔ الکِیْلُوْسُ: ایک سفید سیال یا دودھ جیسا جو رغبت سے کھائی جانے والی چیزوں کا نچوڑ ہوتا ہے۔

۵۔ الکِیْلُوْغْرَام: ایک ہزار گرام کے مساوی وزن (گرام اوقیہ کا بیسواں جزء ہوتا ہے) (یونانیہ)۔

○ کَیْمُوْس: معدی ترشہ کیمیاء: کیمیا، علم کیمیا۔ کیمیا گری، کیمیا سازی۔ الکیمیاء الإحیائیۃ: جاندار اشیاء کی کیمیاء کا سائنسی مطالعہ (Biochemistry) کیمیاء التربۃ: زرعی کیمیاء۔ کیمی: کیمیاوی۔ کیمیائی و کیمیاوی کیمیائی جمع کیمائیوں و کیماویون: کیمیادان، دوا ساز، دوا فروش، کیمیا گر، کیماویات: کیمیاوی مرکبات۔

کیم: الکِیْمِیَاءُ والکِیْمِیَا: اکسیر، جس کے متعلق خیال تھا کہ اس سے سونا چاندی بن جایا کرتا ہے۔ علم الکیمیا او الکیمیا عند القدماء: وہ علم جس سے کسی معدنی چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے بالخصوص اس کو اکسیر کے ذریعے سونے میں تبدیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ (اکسیر حجر الفلاسفہ ہے) یا تمام بیماریوں کے لئے دوا کا استنباط ہے۔ علم الکیمیا او الکیمیا عند المتأخرین: وہ علم ہے جس میں اجسام کے طبائع وخواص سے بواسطہ حل و ترکیب کے بحث ہو اور نسبت کیلئے کِیْمِی و کِیْمَوِیّ کہتے ہیں ج کِیْمِیُّوْنَ و کِیْمَوِیُّوْنَ: (یہ دونوں لفظ یونانی ہیں)۔

کین: کَانَ یَکِیْنُ کَیْنًا لفلان: سے فروتنی کرنا۔ اَکَانَ اِکَانَۃً اللّٰہُ: اللہ کا کسی کو عاجز کر دینا، مطیع کرنا، فرمانبردار بنانا۔ اِکْتَانَ اِکْتِیَانًا: غمگین ہونا اور غم کو چھپانا۔ اِسْتَکَانَ اس کے لئے دیکھیں (ک، و، ن)۔ الکِیْنَۃُ: ذلت وہ سختی، حالت کہا جاتا ہے۔ بَاتَ فُلَانٌ بِکِیْنَۃِ سُوْءٍ: یعنی اس نے بری حالت میں رات گزاری۔

۲۔ الکِیْنَۃُ (ز): بیر بیری کا پھل، ضمانت۔ الکِیْنَا: کونین: بخار کی مشہور دوا۔ (اسپانیہ)۔ شجرۃ الکینا (ن): اس کے متعلق معلومات کے لئے او کالیپٹوس دیکھیں۔

○ کینا: کونین: خشب الکینا: سنکونا، کونین کا پیڑ۔ سنکونا کی چھال، کینین: کونین۔

کیہ: کَاہَ یَکِیْہُ کَیْہًا فلانًا: کا منہ سونگھ کر بو معلوم کرنا۔ الکَیِّہُ: وہ شخص جو اپنے حیلہ سے عاجز آچکا ہو۔

○ کِیَہْک و کِیَہْک: قبطی سال کا چوتھا مہینہ۔

○ کَیْوَان: زحل (ستارہ)

○ کیوبید: کیوپڈ، کام دیوتا، کام دیو۔

ل

ل: تلفظ لام: حروف تہجی کا تیئسواں حرف۔ حرف ابجد میں تیس کے برابر ہے۔ اسکی تین قسمیں ہیں۔ (۱) جار (۲) جازم (۳) غیر عاملہ۔ جار: اسم ظاہر اور یائے متکلم کے ساتھ مکسور اور ضمیر اور مستغاث کے شروع میں مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے (۱) لِزید (زید کے لئے) (۲) مستغاث 'یا' کے ساتھ براہ راست مربوط ہونے کی صورت میں: جیسے یَالَلّٰہِ: (اے خدا مدد فرما)۔ (۳) ضمیر کے ساتھ مفتوح: جیسے لَکَ (تیرے لئے) لیکن یا کے ساتھ مکسور جیسے لِی (میرے لئے)۔ اسم پر داخل ہونے کی صورت میں اس کے متعدد معانی ہیں۔ (۱) اِختصاص: جیسے الجنۃُ للمؤمن: جنت مومنین کے لئے خاص ہے۔ (۲) استحقاق: جیسے العِزَّۃُ لِلّٰہ (عزت کا مستحق اللہ ہی ہے) ما فی السمٰوٰت وما فی الارض: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان کا مالک اللہ ہی ہے۔ (۴) تبلیغ جیسے قلتُ لہ: میں نے اس سے کہا۔ (۵) تعدیہ جیسے ما اشدَّ حبَّ زید لِعمرو (زید کو عمرو سے کتنی شدید محبت ہے)۔ (۶) قسم جیسے لِلّٰہِ لَأُفْعَلَنَّ (خدا کی قسم میں اس کو ضرور کروں گا۔ یعنی واللّٰہِ کے معنی میں)۔ (۷) صیرورت جیسے وُلِدَ الإنسانُ لِحیٰوۃٍ أبدیّۃٍ (انسان ہمیشہ کی زندگی کے لئے پیدا ہوا ہے)۔ (۸) الی، علی، فی اور عند اور بعد کے معنی میں۔ اور کبھی زائد بھی ہوتا ہے جیسے ضربتُ لِزید (میں نے زید کو مارا)۔ (۱۰) تعلیل جئتُکَ لِتُعَلِّمَنِیْ (میں تیرے پاس آیا تا کہ تو مجھے تعلیم دے)۔ (۱۱) تاکید النفی کے لئے۔ اس صورت میں کان منفی اس سے پہلے آتا ہے اور اس لئے لام الجحود کہلاتا ہے۔ جیسے ما کان زیدٌ لِیُکرِمَکَ (زید تیری تعظیم کے لئے ہرگز تیار نہ تھا)۔ (۱۲) لام جازم اور یہ لام الامر ہوتا ہے اور لام طلب کہلاتا ہے اور مکسور ہوتا ہے جیسے: لِیَحْکُمِ اللّٰہُ: (خدا فیصلہ کرے)۔ کبھی مفتوح بھی آتا ہے۔ "ف" اور "و" کے بعد متحرک ہونے سے ساکن زیادہ آتا ہے جیسے: فَلْیَستجیبوا لی ولْیُؤمِنُوا بِی پس چاہئے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں) کبھی ثُمَّ کے بعد ساکن ہوتا ہے: ثُمَّ لْیَقْضُوا۔ (پھر پورا کریں)۔ (۱۳) غیر عامل لام: ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ یہ یا تو لام ابتداء ہوتا ہے جیسے: لَزیدٌ قائم: زید کھڑا ہے)۔ اِنَّ زیداً لقائمٌ: (زید ضرور کھڑا ہے) یا لام جواب جو لو، لولا اور قسم کے بعد آتا ہے جیسے: لَو عُدْتُم لَعُدْنا (اگر تم واپس ہوتے تو ہم بھی واپس ہو جاتے)۔ لولا زیدٌ لَهَلَكْنَا (اگر زید نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے)۔ وَاللّٰہِ لزیدٌ کریمٌ (بخدا زید فیاض ہے)۔ (۳) لام زائدہ: جیسے: اَرَاکَ لَشَاتِمِی (میں خیال کرتا ہوں کہ تو مجھے گالی دینے والا ہے) اسی طرح اسمائے اشارہ سے ملحق لام جو دوری پر دلالت کریں۔ لام جو اصل میں ساکن ہو جیسے تِلْکَ میں، لیکن دو ساکنوں کے اکٹھا آنے کی وجہ سے مکسور ہوتا ہے جیسے ذٰلِکَ میں۔

لا: لا تین طرح استعمال ہوتا ہے۔ (۱) نافیہ جس کے چار معانی ہیں: اولاً: بمعنی نفی جنس، اس صورت میں اس کا اسم فتح پر مبنی ہوتا ہے، بشرطیکہ مفرد ہو، اور مضاف اور مشبہ بالمضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے جیسے: لا رَجُلَ فی الدار (گھر میں کوئی مرد نہیں)۔ لا غلامَ رَجُلٍ حاضرٌ (کسی مرد کا نوکر موجود نہیں)۔ ثانیاً: لیس کا عمل کرے تو اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور واحد کی نفی کے لئے آتا ہے جیسے: لا رجُلٌ قائمٌ: کوئی ایک مرد کھڑا نہیں۔ لیس کا عمل کرنے والے لا اور جنس کی نفی والے لام میں فرق یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لا رَجُلَ فی الدار: تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بل رجلان او رِجالٌ (بلکہ گھر میں دو یا زائد مرد ہیں)۔ کیونکہ آپ نے گھر میں مردوں کی جنس کی مطلق نفی کر دی تھی۔ جب آپ کہتے ہیں: لا رجُلٌ فی الدار (گھر میں ایک مرد نہیں) تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بَلْ رجُلان او رجالٌ (بلکہ گھر میں دو یا زائد مرد ہیں)۔ کیونکہ لیس کا عمل کرنے والا لا ایک کی نفی کرتا مگر واحد کی سوا کی نفی نہیں کرتا۔ ثالثاً: لا نافیہ عطف کے لئے ہوتا ہے جیسے: جاء زیدٌ لا عمرو (زید آیا نہ کہ عمرو۔ رابعاً: حرف جواب نعم کا نقیض (یعنی الٹ) جیسے: أقامَ زیدٌ؟ (کیا زید کھڑا ہے) کے جواب میں کہا جائے گا لا (نہیں)۔ لا ناھیہ: طلب کے لئے اور مضارع پر داخل ہونے سے مخصوص ہے اور اسے جزم دیتا ہے جیسے: لا تخف (مت ڈر) زائدہ کے طور پر آ کر معنی کو تقویت دیتا ہے اور حذف کیا جائے تو معنی میں کوئی خلل نہیں ڈالتا جیسے: ما مَنَعَکَ ان لا تَقُومَ جیسے: ما منعك ان تقوم بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ (تجھے کس بات نے روکا کہ تو کھڑا نہ ہو اور تجھے کھڑا ہونے سے کس بات نے روکا) کا ایک ہی معنی ہے۔

ل: سچ مچ، خلوص سے، واقعی، یقیناً، قطعاً، بے شک، لازماً، (اکثر ان کے بعد، مسند یا خبر کو متعارف کراتے ہوئے) جیسے: ان ربی لسمیع الدعاء: میرا پروردگار سچ مچ دعا کو سنتا ہے۔ لو اور لولا کے ساتھ آتے ہوئے جیسے: لو کنتَ تفعلُ لکانَ انفعَ:

اگر تم نے یہ کیا تو زیادہ نفع بخش ہوگا۔ لَـوْلَا تَـابَ لَهَـلَكَ: اگر وہ توبہ نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا۔ قسم کا حرف ہونے کی حیثیت سے لَـعَـمْـرُكَ: تمہاری زندگی کی قسم۔ لِ: کیلئے، کی خاطر، کی طرف سے، کی ہمدردی یا پاسداری میں، کے واسطے، کی خاطر، کی وجہ سے، کے سبب سے، کے مقصد کیلئے، کے وقت، جب، کا، از، کی تصنیف، کا لکھا ہوا، مـصـنَّـفه، بمعنى إلى؛ لي عليه مال: وہ میرا مقروض ہے۔ مَالَهٗ و مَا عليه: اس کا حق اور فرض، اس کا سرمایہ اور قرض لـه ان: اسے حق ہے کہ، وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کے لئے ممکن ہے کہ، وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ۔ لَيـسَ لـي أن: مجھے کوئی حق نہیں کہ، یہ میرے لئے مناسب نہیں، مجھ کو زیب نہیں دیتا کہ۔ لَكَ ذلك لكَ هـذا: تم وہ رکھ سکتے ہو، یہ اب تمہارا کام ہے، یہ کرنا تمہارا کام ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک، منظور: هـل لَكَ فـي يا الَكَ في: کیا آپ پسند کریں گے، کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ محسوس کرتے ہیں۔ قرأتُ له كتابا: میں نے اس کی ایک کتاب پڑھی، میں نے اس کی کتابوں میں سے ایک پڑھی۔ لاتـدوم لَـهُ حَـالٌ: اس کی کوئی حالت بھی پائدار نہیں وہ کبھی بھی زیادہ دیر تک وہی نہیں ہوتا۔ قَـامُوْا لِمعَاوَنَتِنَا: وہ ہماری مدد کرنے لگے۔ لسبع ليالٍ خَلَوْنَ مِن شعبانَ: جب شعبان کے مہینہ کی سات راتیں گذر چکی تھیں۔ لِلْمَرَّةِ الْاُولٰى: پہلی بار، مرتبہ۔ لِاَوَّلِ وَهْـلَـةٍ: فوراً، دیکھتے ہی۔ اَخُـوْهُ لِاَبِيْهِ و اُمِّهِ: اس کا پدری اور مادری بھائی، اس کا سگا بھائی۔ ۳۔ تا کہ، (کرنے) کے لئے، کی غرض سے، (حکم یا دعوت کے اظہار کے طور پر) جیسے: لِيَكْتُبْ: وہ لکھے، اسے لکھنے دو۔ 'و' یا 'ف' 'ل' سے پہلے آئے تو وَلْ یا فَلْ پڑھا جاتا ہے۔ لِأَجْلِ، لِ......: کے لئے، کے باعث، کی وجہ سے، کے سبب۔ لأن: تاکہ، کہ، (کرنے) کے لئے، کی غرض سے۔ لِئَلَّا: تاکہ نہ، مبادا، ایسا نہ ہو۔ لِأَنَّ: کی بنا پر، چونکہ، اس لئے کہ لِذَلِكَ: اس لئے۔ لِكَيْ، لِكَيْمَا: کہ، تاکہ (کرنے) کے لئے، کی غرض سے۔ لِمَ: کیوں، کس وجہ سے، کس لئے۔ لماذا: کیوں، کس لئے، آخر کیوں۔ لِهذا: اس لئے، اسوجہ سے۔ لا: نہیں، نہ جیسے: لاتقل: نہ کہو۔ لا اِلٰهَ الا اللّٰه: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا خيرَ فيه: اس میں کوئی خیر نہیں، یہ اچھا نہیں۔ لا بُدَّمِنْـهُ: اس سے کوئی مفر نہیں، یہ اٹل ہے، یہ ناگزیر ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ لا جَـرَمَ: یقیناً۔ لاشَكَّ: کوئی شک نہیں، بلاشبہ۔ لاسِيَّمَا: خصوصاً، خاص کر، بالخصوص۔ اَلَا: دیکھو۔ بلا: بغیر۔ ولا: نہ ہی۔ حتى ولا: نہ ہی، بھی نہیں۔ لم يُعْطِني حتى ولا قِرشاً: اس نے مجھے ایک قرش بھی نہیں دیا۔ لا ...... ولا: نہ (یہ) ......نہ (وہ)۔ لَا أبـالِـيَـه: بے پروائی، بے رخی، بے اعتنائی، نہ اچھا نہ برا رویہ۔ لا اَدْرِيَـه: لاادریت، مادہ پرستی، مادیت، شک، ارتیاب۔ اَللَّا أَنَـا: معروض، تُو۔ (nonego) (اَنا میں (ego) کا الٹ)۔ لا اَنَـانِية: بے نفسی، بے غرضی جس میں خود غرضی نہ ہو۔ لاجِـنْـسِيَّة: بے قومیت۔ (state lessness, being without natioality)۔ لادينـي: مذہب دشمن، لامذہب، بے دین۔ لادينية: مذہب سے بیگانگی یا دشمنی، کفر۔ لَا سامِي: سامی نسل کا مخالف، یہودیوں کا مخالف، یہودیوں کے خلاف۔ لَاسَامِيَة: سامی نسل کی مخالفت۔ لاسِلْكِي: بے تار برقی، ریڈیو (صفت)، ریڈیو، براڈ کاسٹنگ، ریڈیو پیغام، نشریہ۔ اشارة لا سِلْكِيَة: ریڈیو پیغام، لاسلکی پیغام۔ اللا شعُـور: تحت الشعور، لاشعور، بیہوش، بے ہوشی، بے خبری، لاشعوری: بیہوش، بے خبر۔ غافل لَاشَيْ: نیستی، فنا، عدم۔ لاشئ: کچھ نہیں۔ لاشَيْئِيَة: لاوجود، نیستی، عدم، فنا، عدمیت۔ لاشيت: بے حقیقت چیز، معدومیت۔ لامُبالاة اور لامُبالِيَة: بے پروائی، بے رخی، بے اعتنائی، نہ اچھا نہ برا رویہ۔ لامـر كـزية: مرکزیت کو توڑ دینا، مقامی اقتدار قائم کرنا۔ لامسئولية: بے پروائی، غیر ذمہ داری۔ لانظام: نظام کا فقدان گڑبڑ، ابتری، بے ترتیبی۔ اللَّانِهَـايَة: ذات لامحدود۔ لانِهَائي: لامحدود، لامتناہی۔ اللاتين: قدیم لاطینی لوگ۔ لاتيني: لاطینی۔ الحي اللا تيني: پیرس کا ایک محلہ۔ اللاتينية: لاطینی زبان، لاطینی (نسل یا زبان کا)۔ لَاذِن: افیون کا ست، افیون کا آمیزہ، الکحل اور افیون کا محلول۔ لَازُوَرْدُ: آسمانی، نیلا آسمانی، نیلگوں۔ لازوردی: نیلا آسمانی، نیلگوں، لاجوردی۔ لازُوَرْدِيَـه: آسمانی، آسمان کا نیلا رنگ۔ لاسية: ڈوری، فیتہ۔

لاب: المُلَبَّب: سیدھا۔

لات: لاتَ: یہ حرف نفی لیس کا معنی دیتا ہے۔ اس کا صرف ایک معمول ہی ذکر کیا جاتا ہے اور اسم عموماً محذوف ہوتا ہے اور خبر مذکور ہوتی ہے۔ جیسے: نَدِمَ البُغَاةُ وَلَاتَ سَاعَةَ مَنْدَمٍ۔ باغی نادم ہوئے مگر اس وقت جب ندامت کا وقت نہ رہا تھا۔ لات ساعة مندم کا معنی ہے لاتَ الساعةُ ساعة مندم)۔

لاز: اللازَوَرْد: لاجورد۔ اللاز وردی: لاجوردی، نیلا، آسمانی نیلا۔

لاط: لَأَطَ - لَأْطًا هُ: پرزور دے کر حکم دینا۔ ـهُ بسهم: کو تیر مارنا۔ ـهُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ـــ على فلان: پر سختی کرنا۔ ـــ فلانٌ في مررهٖ: کسی طرف دیکھے بغیر جلدی جلدی بھاگتے ہوئے گزرنا۔ ـــ فلاناً: کا نظروں سے اوجھل ہونے تک نگاہوں سے تعاقب کرنا۔

لأظ: لَأَظَ - لَأْظًا هُ: کو اداس کرنا، دھتکارنا، کی مخالفت کرنا۔ ـــ فلاناً في التقاضي: پر ادھار کی ادائیگی میں سختی کرنا۔

لأف: لَأَفَ - لَأْفًا الطعامَ: کھانا اچھے طریقے سے کھانا۔

لأك: اَلَاكَ اِلَاكَةً هُ اِلى فلان: کو پیغام پہنچانا۔ کہا جاتا ہے: اَلِـكْـنِيْ اِلى فلان: میرا پیغام اس کو پہنچا دو (اصل میں اَلْأَكْ ہے)۔ اِسْتَلْأَكَ لَـهُ: کے پاس پیغام لیجانا۔ المَلْأَكُ: پیغام۔ ـــ جمع مَلَائِكَة و مَلَائِك و اَمْلَاك: پیغام رساں فرشتہ (مفرد مَلَاك اور جمع مَـلَـئِكَة بھی لکھا جاتا ہے)۔ المَلَك: بمعنى المَلْأَك۔ ـ في الحساب: گرد کے اوپر۔ المَلْأَكَة: پیغام۔

○ مَلَائِكِي: فرشتوں سے متعلق، حسین اور معصوم، آسمانی، مقدس، قدوسی، پیکر حسن و خوبی۔

لأل: لَأْلَأَ لَأْلَأَةً النجمُ او البرقُ: ستارہ یا بجلی کا چمکنا۔ ـتِ النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ ـ الدمعَ: آنسو بہانا۔ ـ الثورُ بذنبه: بیل کا دم ہلانا۔ ـتِ النَوَائِحُ: بین کرنے والی عورتوں کا ہاتھوں کو اوپر نیچے کرنا۔ تَلَأْلَأَ النجمُ و البرقُ و النارُ: ستارہ، بجلی اور آگ کا چمکنا۔ ـــ وجهُهُ: چہرہ کا دمکنا، روشن ہونا۔ اللَّأَّلَة: موتی جڑنے کا پیشہ۔ اللَّأْلَاء: بہت زیادہ خوشی، موتی بیچنے والا۔ لَأْلَاءُ السراج: چراغ کی روشنی۔ اللأْلَأُ و اللأْلاء: موتی فروش۔ اللُّؤْلُؤ واحد لُـؤْلُـؤَة جمع لَآلِـي: موتی۔ اللُّؤْلُئِيّ و اللُّؤْلُؤَان: موتی کے رنگ کا۔ اللُّؤْلُؤِيَّة (ن): ایک قسم کا پودا جو باغوں میں اس کے خوبصورت پھولوں کی وجہ سے اگایا جاتا ہے۔ اس کو اَسْطَرُ الصين بھی کہتے ہیں۔

○ لَأْلَأَ لَأْلَأَةً: چمکنا، روشن ہونا، بھڑک اٹھنا، شعلہ فشاں ہونا، دمکنا، جھلکنا، جھلملانا، ٹمٹمانا، شعاعیں نکالنا۔ لَأْلَأَ بذَنَبِه: دم ہلانا۔ تَلَأْلَأَ: چمکنا، دمکنا، روشن ہونا، شعلہ فشاں ہونا، جھلملانا، ٹمٹمانا۔ لَأْلَأَة: چمک، دمک، تمتماہٹ، جھلک، جھلکیاں، جگمگاہٹ، جھلکا، کرن۔

آب و تاب، طباعی، درخشانی، تابانی۔ لَألَاء:
چمک، دمک، شعلہ، کامل خوشی، پرسکون، شادمانی،
موتیوں کا تاجر۔ لُؤلُؤ (اسم جنس واحد لُؤلُؤۃ) جمع
لآلی: موتی۔ زَهرُ اللُّؤلُؤ: ڈیزی(daisy)۔
لُؤلُؤِی: موتی کی طرح کا، موتی کا، صاف شفاف،
موتی رنگ کا، سفیدی مائل۔ تَلَألُؤ: چمکنا، دمکنا،
درخشانی، تابانی، تابندگی، چمک، آب و تاب، طباعی،
ذہانت۔ مُتَلَألِئی: ٹمٹماتا، چمکتا، دمکتا ہوا، شعلہ
فشاں۔

لام: ۱۔ لَأَمَ ـ لَأمًا و لَأَمَ تَلْئِيمًا السهمَ: تیر پر پر
لگانا ـــ الجرحَ: زخم کی مرہم پٹی کرنا۔۔۔۔۔۔ و الْأَمَ
الْأَمًا الشیءَ: کو درست کرنا، کو اکٹھا کر کے باندھنا
ـــ ہُ الشیءَ: چیز کا کے موافق ہونا۔ ـــ بین القوم:
قوم میں صلح کرانا۔ تلاءَمَ الشیءُ الفاسدُ:
خراب چیز کا درست ہونا۔ لَأْمَۃٌ ای دِرعَہٗ: زرہ
پہننا۔ تَلاءَمَ الشیءُ الفاسدُ: خراب چیز کا درست
ہونا۔ اِلْتَأَمَ الفاسدُ: خراب کا درست ہونا۔ ـــ
الشیءُ: آپس میں چمٹ جانا، مل جانا، جڑ جانا۔ ـــ
الجرحُ: زخم کا انگور لانا اور اچھا ہو جانا یا بھر جانا۔ ـــ
القومُ: لوگوں کا مجتمع ہونا۔ ـــ الشیئان: یکجا ہونا،
متحد ہونا، اکٹھا ہونا، ملنا، جڑنا۔ ـــ الفریقان: دو
فریقوں کا آپس میں صلح کرنا، مل جانا۔ اِسْتَلْأَمَ
اِسْتِلْآمًا: زرہ پہننا۔ کہا جاتا ہے: هو لِئامُہٗ: وہ
اس جیسا ہے۔ اللَّأم (مص) جمع اللَّأمَۃ: زرہ۔
ہر سخت چیز۔ کہا جاتا ہے: شیءٌ لَأمٌ: مجتمع شے، جڑی یا
ملی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے: سهمٌ لَأمٌ: پردار تیر۔
اللَّأْمۃ جمع لُؤَم و لُؤَم: زرہ۔ اللِئم: تلوار۔ لوگوں
میں اتفاق ـــ جمع الام و لِئام: مثل، مانند۔ اللُمَۃ
جمع لُمات: مثل، مانند۔ کہا جاتا ہے: هو لُمَتی:
وہ مجھ جیسا ہے، میرا ہمشکل ہے۔) تین سے دس تک
لوگوں کا گروہ۔ اللُّؤمَۃ: دوسروں کے کام کی نقل
کرنے والا، وہ چیز جس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس
میں بخل سے کام لیا جائے، کاشت کاری کے اوزار۔
المُلأم: زرہ پوش۔

۲۔ لَأُمَ ـ لَأمًا و لَأَّمَ تَلْئِيمًا الرجلَ: کو کمینہ کہنا۔ لَؤُمَ ـ
لُؤمًا و مَلأَمَۃً و لَآمَۃً: کمینہ ہونا، بخیل و حریص
ہونا، ذلیل ہونا صفت لَئِیم جمع لِئام و لُؤَماء۔ اَلْأَمَ
الرجلُ: کمینی اولاد جننا، ایسا کام کرنا جس پر لوگ
اسے کمینہ کہیں، کمینہ پن کرنا۔ اِسْتَلْأَمَ اِسْتِلْآمًا:
کمینوں میں شادی کرنا۔ ـــ اَصْهارًا: کنجوس داماد
بنانا۔ ...... الابَ: کنجوس یا کمینے باپ والا ہونا۔

اللَّأمانُ و اللُّؤمان: طبعاً کمینہ۔ دنی الطبع۔ (نداء
سے مخصوص ہے)۔ اللَئِیم جمع لِئام و لُؤَماء:
بخیل، کنجوس، کمینہ اصل والا، طبیعت کا رذیل، ذلیل۔
المَلأم و المِلأم و المِلآم: کمینوں کی عذر خواہی
کرنے والا، بحالت نداء کہا جاتا ہے: یا مَلأَم بمعنی
یا لَئِیم۔ اللَّأمان: نداء سے خاص ہے بمعنی
المَلأَمان: کہا جاتا ہے یا مَلأَمان بمعنی یا لَئِیم۔
رجلٌ مُلأَمٌ: کمینہ۔ المُلئِم: بخیل، کمینہ لئیم
لوگوں سے میل جول رکھنے والا۔

۳۔ اِسْتَلأَمَ اِسْتِلأَمًا الحجر الأسوَدَ: حجر اسود کو
چومنا۔

۴۔ اللأم: شخص۔ اللِئم: شہد۔ اللُّؤام: حاجت،
ضرورت، کہا جاتا ہے: لی عنده لُؤام: میری اس
کے پاس ضرورت ہے، مجھے اس سے کام ہے۔

○ لَأَمَ ـ لَأمًا ہ: (زخم) کی مرہم پٹی کرنا، پر پٹی باندھنا
ـــ ہ: کی مرمت کرنا، اصلاح کرنا، ٹانکا لگانا، جھالنا
کی ویلڈنگ کرنا، کوتپا کر جوڑنا۔ لَؤُمَ ـ لُؤمًا و لَآمَۃً و
مَلأمَۃً: کمینہ ہونا، کم اصل ہونا، رذیل ہونا (کردار و
پیدائش کا)، گھٹیا، رذیل یا پست ہونا، کمینہ، نیچ یا ذلیل
ہونا، خراب ہونا، گندا ہونا، برا ہونا، بد ہونا، گنہگار ہونا،
بدکار ہونا، فاسق ہونا، بداعمال ہونا، بدطینت ہونا۔
لَاءَمَ ہ: سے متفق ہونا، (لباس کا) پر پھبنا، سجنا، اچھا
لگنا، کوفٹ آنا۔ ـــ ہ: کے مناسب ہونا، کیلئے موزوں
ہونا، کے مطابق ہونا، کیلئے برجستہ و برمحل ہونا، کافی
ہونا، کے مطابق بننا، سے ہم آہنگ ہونا، کا سے میل
کھانا، کے لئے موزوں ہونا۔ ـــ ہ: آب و ہوا، خوراک
کا کو راس آنا، کیلئے صحت بخش ہونا۔ ـــ بین: کے درمیان
صلح کرانا، مصالحت کرانا ـــ بین و ـــ: کے ساتھ
ہم آہنگی پیدا کرنا۔ ـــ بین: (مختلف چیزوں) کو ہم
آہنگ کرنا، کو موزوں کرنا، موافق کرنا۔ اَلْأَمَ:
کمینگی سے کرنا، رسوا کن رویہ اختیار کرنا۔ تَلَأَّمَ:
اصلاح ہونا، مرمت ہونا، درست ہو جانا۔ ـــ مع:
کے ساتھ ٹھیک چلنا۔ تَلاءَمَ: کمینگی سے کرنا۔ اِلْتَأَمَ:
اصلاح ہونا، مرمت ہونا، ٹھیک ہو جانا، مل جانا، جڑ
جانا، منسلک ہو جانا، ویلڈنگ ہو جانا، تپ کر جڑ جانا،
ٹانکا لگنا، جوڑ ہونا، برابر کا جوڑ ہونا، باہم فٹ ہونا، ہم
آہنگ ہونا، موزوں ہونا، موافق ہونا، آرام دہ ہونا،
مطابق ہونا، سُر ٹھیک ہونا، خوب رواں ہونا، مل جانا، جڑ
جانا، متحد ہو جانا، (زخم کا) بند ہو جانا، ٹھیک ہو جانا؛
(لوگوں کا) اکٹھا ہونا، جمع ہونا، (کمیٹی وغیرہ کا)
اجلاس ہونا۔ لأْم: مرہم پٹی کرنا، (زخم پر) پٹی باندھنا

مل جانا، اتصال، تعلق، رابطہ، پیوند، مرمت۔ لُؤم: کمینہ
ذہن، حرامی پن، کمینہ پن، پاجی پن، رذالت، کمینگی،
دنائت، بدمعاشی، خباثت، ذلت، تنگ دلی، کنجوسی،
بخل، خست، سیاہ کاری، بداعمالی۔ لِئام: صلح،
اتفاق، ملاپ، ایکا، گٹھ جوڑ، موافقت، اتحاد، یگانگت،
یکجہتی، ہم آہنگی، مطابقت۔ لأْمَۃ: چار آئینہ (زرہ کا
چھاتی والا حصہ)۔

لای: ۱۔ لَأَی یَلْأَی لَأْیًا: دیر لگانا، رکنا۔ اَلْأَی اِلْآءً:
مصیبت و محنت میں پڑنا۔ اِلْتَأَی اِلْتِئاءً: دیر کرنا، تنگ
گزاران اور مفلس ہونا۔ اللأْی و اللأی و
اللأواء: سختی، تکلیف، رنج۔

۲۔ اللَّأی: ڈھال۔۔۔۔۔۔م لآۃ جمع اَلْآء (ح): جنگلی بیل۔

لام: حرف لام (ل)۔ لامِی: دل کی شکل کا، حرف ل
جیسا۔ لاما: امریکی اونٹ(lama, liama)
لانش جمع لانشات: لانچ(launch)، موٹر بوٹ،
چھوٹا اسٹیمر۔ لاهای: جنوب مغربی نیدرلینڈ کے شہر کا
نام(The Hague)۔ لاهوت: اللہ تعالیٰ، خدا،
دیوتا، دیوی، خدائی، الوهیت، علم اللاهوت:
دینیات، علم کلام۔ لاهُوتِی: دینیاتی، عالم دین،
ماہر دینیات، متکلم۔ اللاهُوتِیۃ: دینیات، علم کلام۔
لاهور: (مغربی پاکستان کے ایک شہر کا نام)۔ لأواء:
سخت مصیبت، سختی، مشکل۔ لأی: آہستگی، سستی، بار
خاطر ہونا، ناگوار ہونا، تکان، اکتاہٹ۔ بعد لأی:
بڑی مشکلوں کے بعد بالآخر، آخر کار، بہرحال۔
لائکی: غیر مُلّا، غیر پادری، غیر ماہر(layman)،
لادینی، غیر مذہبی(secular)، دنیادار، اناڑی، غیر
ماہرانہ، اناڑیوں کا سا، غیر کلیسیائی، عام آدمی، غیر
مذہبی۔ لائکیۃ: غیر مذہبیت۔

لبّ: ۱۔ لَبَّ ـ لَبًّا بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔
اَلَبَّ بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ـــ
علی الامر: کام کرتا رہنا۔ ـــ لہ الشیءُ: کو پیش
آنا۔ کہا جاتا ہے: دارُ فلان تُلِبُّ داری: فلاں کا
گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اللَّبُّ م لَبَّۃ جمع
لِباب: مہربان، لوگوں کے قریب رہنے والا۔ رجلٌ
لَبٌّ علی الامر: کام کرتے رہنے والا امرد۔ ام
لَبَّۃ: محبت کرنے والی، مہربان ماں کہا جاتا ہے: لَبابِ
لَبابِ: کوئی حرج نہیں۔ رجلٌ لبیبٌ جمع اَلِبّاء م
لَبِیبَۃ جمع لَبِیبات و لبائب: کام پر لگا رہنے والا
مرد۔ کہا جاتا ہے: لَبَّیْکَ بمعنی اِلْباباً بِکَ بعد اِلْبابٍ
و اِقامۃً علی طاعتِکَ بعد اقامۃ و اجابۃ بعد
اجابۃ۔ ـــ تثنیہ تاکید کیلئے ہے، نصب مفعول مطلق

ہونے کی وجہ سے اور معنی ہے: میں آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں۔

۲۔ لَبَّ ـلَبًّا اللَّوْزَةَ: بادام توڑ کر گری نکالنا۔ ــــ الرجُلَ: کے سینہ پر مارنا۔..... الـدابّةَ: جانور کے سینہ پر تنگ باندھنا..... ـلَبًّا و لَبَابَةً: عقل مند ہونا۔ لبِبَ ـ لَبًّا و لَبًّا و لُبًّا و لَبَابَةً: عقل مند ہونا۔ لَبَّبَ تَلْبِيبًا الحبُّ: دانہ کا گودے والا ہونا۔ ــــ فلانًا: کو گریباں پکڑ کر کھینچنا۔ اَلَـبَّ الـدابّةَ: جانور کے سینہ پر تنگ باندھنا ــــ السرجَ: زین کا تنگ بنانا۔ تَلَبَّبَ للقتال: لڑائی کے لئے کمر کسنا۔..... الرجُلان: ہر ایک کا ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ کر کھینچنا۔ إسْتَلَبَّ زيداً: زید کی عقل کو آزمانا۔ اللُبّ جمع اَلْبَاب و اَلُبّ و اَلْبُب: سمجھ فہم ہر، چیز کا خالص، فراست، خالص عقل، تیز فہمی، دل، زہر، پھل کا گودا، گری۔ اللَّبَّة: اسم مرة سینہ کا بالائی حصہ جہاں ہار پہنتے ہیں۔ اللَبَب (مص) جمع اَلْبَاب: سینہ کا بالائی حصہ جہاں ہار پہنتے ہیں۔ سینہ کا اوپر کا حصہ، گھوڑے وغیرہ کے سینہ پر باندھنے کا تنگ، باریک ریت۔ اللُباب: ہر چیز کا خالص اور منتخب حصہ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لُبابُ قومه و هم لُبابُ قومهم و هی لُبابُ قومها: فلاں اپنی قوم کا برگزیدہ ہے، وہ اپنی قوم کے برگزیدہ ہیں، وہ اپنی قوم کی برگزیدہ ہے۔ حسبٌ لُبابٌ و عيشٌ لُبابٌ: یعنی خالص حسب و زندگی، گودا، گری۔ اللَبابة: لڑائی کے لئے کپڑوں کے اوپر پہننے کا کپڑا۔ اللَبِيب جمع اَلِبّاء م لَبِيبَة جمع لبيبات و لبائب: عقل مند۔ بنات اَلْبُب: دل کی رگیں۔ کہا جاتا ہے: انا اُحِبُّكَ من من بنات اَلْبُبي: میں تجھ سے تہ دل سے محبت کرتا ہوں۔ اَلْبُب کی جمع اَلْاَبب اور تصغیر اُلَيْب۔ الاُلْبُوب: بیر کی گٹھلی۔ التَلْبِيب: عقل مند بننا۔..... جمع تلابيب: گریبان (طوق کے نام سے معروف ہے) کہا جاتا ہے: اخذ بتلابيبه: کو گریبان سے پکڑنا۔ المُتَلَبَّب: ہار کی جگہ۔ المَلْبُوب: اچھا عقل والا۔

۳۔ لَبَّبَ تلبيباً فی الامر: میں تردد کرنا۔

۴۔ اللَبَب: حال۔ کہا جاتا ہے هو رخيُّ اللبب: اس کا سینہ کشادہ ہے۔ فلانٌ فی لَبَبٍ رخيّ: فلاں خوشحال ہے۔ اللَبَاب: تھوڑی گھاس۔

۵۔ لَبْلَبَ ت المرأةُ بولدها: عورت کا اپنے بچے سے لاڈ و پیار کرنا۔..... ت الشاة بولدها بعد الوضع: بکری کا اپنے بچے کو پیدائش کے بعد چاٹنا۔ اللَبْلَب و اللُبْلُب: اپنے اہل سے مہربانی کرنے والا، پڑوسیوں سے نیک سلوکی سے پیش آنے والا۔

۶۔ لَبْلَبَ القومُ: متفرق ہونا۔ اللَبْلَبة عند العامّة: مخلوط کلام۔ ممکن ہے لبلبة کی تحریف ہو۔ لَبالِبُ الغنم: بکریوں کا شور اور آواز۔

۷۔ اللَبْلَاب (ن): مختلف قسم کی بیلیں جیسے عشق پیچاں۔ لَبْلابُ الحقول: کھیتوں میں اگنے والی ایک نقصان دہ گھاس۔

○ لَبَّ ـلَبًّاب: میں رہنا، اقامت گزین ہونا، ٹھہرنا۔..... ـلَباً: عقلمند، ہوشمند یا زیرک ہونا، معقول ہونا، ذہین ہونا، سمجھدار ہونا۔ لَبَّبَ: (اناج کا) گودادار ہونا، گری یا مغز کی صورت میں پکنا، اناج کا گری یا مغز یا گودا بنانا۔ تَلَبَّبَ ل: کے لے، کمر بستہ ہونا، تیار ہونا۔ لُبّ جمع لُبُوب: گریاں، مغز، گودے، پھلوں کا گودا، مغز، بیج دان، مغز، بالکل اندرونی، گہرا، عمیق، قلبی، جوہر، لب لباب، بنیادی نکتہ، اہم بات، خلاصہ، ماحصل، اہم نکات، ست، جوہر، روح، بہترین حصہ جمع الباب: دل، ذہن، عقل، سمجھ، فہم لَبَّة جمع لَبَّات: سینہ کا بالائی حصہ۔ جانور کا گلا وہ جگہ جہاں جانور کا گلا ذبح کرتے ہوئے کاٹا جاتا ہے۔ لِبَة: سنہری ہار، چمپا کلی۔ لَبَب جمع اَلْبَاب: سینہ کا بالائی حصہ، جانور کا گلا، جانور کی وہ جگہ جہاں ذبح کرتے ہوئے چھری پھیری جاتی ہے، گھوڑ کا تنگ زیر بند، پیش بند، تنگ بند (وہ تسمہ جو ایک طرف لگام میں اور دوسری طرف چار جامے کے پچھلے حصے میں بندھا ہو)۔ لُبَاب: لب لباب، جوہر، مغز، بنیادی نکتہ، خلاصہ، ماحصل، روح، بہترین حصہ۔ لُبّ خشب: کیسلین cellulose۔ لَبِيب جمع اَلِبّاء: سمجھدار، معقول، ہوشمند، زیرک ذہین۔ تلبيب جمع تَلَابِيب: گریبان۔ اَخَذَ بتلابيبه: کا گریبان پکڑنا، کو گریباں سے پکڑنا، کے گریبان کو ہاتھ ڈالنا۔

لبا: لَبَأَ ـلَبْأً الشاةَ: بکری کی پیوی دوہنا ــــ ت الامُّ ولدَها: ماں کا بچے کو پیوی پلانا۔ ــــ الزرعَ: کھیتی کو پہلی بار پانی دینا۔ ــــ القومَ: لوگوں کو پیوی کھلانا۔ ــــ اللباءَ: پیوی (کھیس) کو درست کرنا اور پکانا۔ لَبَّأَ تَلْبِئَةً الشاةُ: بکری کے تھن میں پیوی اترنا۔ صفت مُلَبِّئ۔ اَلْبَأَ القومَ: لوگوں کو پیوی کھلانا۔ ــــ اللِبَأَ: پیوی کو ٹھیک کرنا، پکانا ــــ تِ الشاةُ: بکری کے تھن میں پیوی اترنا۔ ــــ الجديُ: بکری کے بچے کا خود پیوی پی لینا۔ ــــ القومُ: لوگوں کے پاس بہت پیوی ہونا۔ ــــ الفصيلَ: پیوی پینے کے لئے منہ تھن سے لگا دینا (اونٹنی یا گائے کے بچے کا)۔ اِلْتَبَأَ اللِباءَ: پیوی پینا۔ ــــ الشاةَ: بکری کی پیوی دوہنا۔ ــــ واسْتَلْبَأَ الجديُ الشاةَ: بکری کے بچے کا خود پیوی پی لینا۔ اللِبَأ: پیوی، کھیس، پہلا دودھ۔ اللَبْأَة و اللَبَأَة و اللَبُؤَة و اللَبْوَة و اللِبْوَة و اللَبَة و اللَباة و اللَبُ جمع لَبَآت و لُبَاء و لَبُؤ و لَبُؤات (ح): شیرنی۔

۲۔ لَبَّأَ تَلْبِئَةً بالحجّ: لبَّيك اللهمَّ لبّيك: کہنا۔ (ناقص یائی سے لَبَّى تَلْبِيَةً کی طرح۔ اس کی اصل ہمزہ نہیں بلکہ یاء ہے)۔

لبت: لَبَتَ ـلَبْتًا يدَهُ: کا ہاتھ مروڑنا۔..... فلاناً: کے سینہ، پیٹ اور کمر پر لاٹھی مارنا۔

○ لَبَتَة: ایک مچھلی جو عام طور پر تالابوں میں پائی جاتی ہے۔

لبث: لَبِثَ ـلَبْثًا و لُبْثًا و لَبَثًا و لَبَاثًا و لُبَاثًا و لَبَاثَةً و لَبَثَانًا و لَبِيثَةً بالمكان: جگہ پر ٹھہرنا، اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے: مالَبِثَ اَنْ فَعَلَ كذا: اس نے ایسا کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ لَبَّثَ و اَلْبَثَ فُلاناً فی المكان: کو جگہ میں ٹھہرانا، مقیم کرانا۔ تَلَبَّثَ بالمكان: کسی جگہ ٹھہر جانا۔ إسْتَلْبَثَ هُ: کو ست پانا، ست سمجھنا۔ اللابِث و اللبث بالمكان: جگہ میں مقیم، اقامت رکھنے والا، ٹھہرنے والا۔ اللُبْثَة: تھوڑا سا قیام۔ اللَبِيثَة (مص) لَبَائِث: مختلف قبائل کی جماعت۔

○ لَبِثَ ـلَبْثًا و لُبْثًا و لَبَاثًا: پس و پیش کرنا، تامل کرنا، ہچکچانا، ٹھہرنا، اٹکنا، پیچھے رہنا، توقف کرنا، دیر لگانا، رہنا، منتظر رہنا، دیر میں آنا، یا پہنچنا، کاہلی کرنا..... ہ ب: (ایک جگہ) میں رہنا، ٹھہرنا، جمے رہنا۔ لَبِثَ يفعله: وہ کچھ دیر یہ کام کرتا رہا۔ مالَبِثَ (لم يَلْبَثْ) أن (حتى): اس نے فوراً، وقت ضائع کئے بغیر، جلدی (کچھ کیا)۔ تَلَبَّثَ: ہچکچانا، پس و پیش کرنا، تامل کرنا، توقف کرنا، دیر لگانا، رہنا، ٹھہرنا، اقامت کرنا۔ لَبْث و لُبْث و لَبَث: ہچکچاہٹ، پس و پیش کرنا، توقف، تاخیر، دیر، اقامت، عارضی اقامت، قیام۔ لُبْثَة: تھوڑی سی دیر، مختصر وقفہ، توقف، پس و پیش، رکنا، ٹھہرنا، توقف کرنا، عارضی قیام، عارضی ٹھہراؤ۔

لبج: لَبَجَ ـلَبْجًا به الارضَ: کو زمین پر پچھاڑ دینا، پٹک دینا۔ کہا جاتا ہے: لُبِجَ بالرجل او البعير: بیماری یا تھکن سے مرد یا اونٹ کا زمین پر گر پڑنا صفت لَبِيج۔ ــــ هُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ اللُبْجَة و اللَبَجَة جمع لُبَج و لُبَج: ایک شاخ دار لوہا جس سے بھیڑیے کو شکار کیا جاتا ہے۔ اللَبَّاج: احمق،

کمزور عقل والا۔

لبح: لَبِحَ ۔لَبَحاً و لَبَحَ و الْبَحَ الرجلُ: مرد کا بوڑھا ہو جانا۔ اللَّبَح: سن رسیدہ بوڑھا، بہادری، شجاعت

لبخ: ۱۔ لَبَخَ ۔لَبْخاً فلاناً: کو مارنا، کو گالی دینا، کو قتل کرنا۔ لَبَّخَ و تَلَبَّخَ جسمُهُ من الضرب: کے جسم پر مار پیٹ کے آثار کا نظر آنا۔ لَا بَخَ لِبَاخاً و مُلَابَخَةً: باہم طمانچے مارنا، ایک دوسرے کو مارنا۔ ۲۔ لَبَخَ ۔لَبْخاً الرجلُ: پکڑنے کیلئے حیلہ کرنا۔...... الشیءَ: کو لے لینا۔

۳۔ لَبَخَ ۔لُبُوخاً جسدُهُ: بدن کا بہت گوشت والا ہونا صفت لَبِیخ ۔ لَبَّخَ لَهُ: کو مرہم لگانا۔ پلٹس (poultice) باندھنا۔ (عوام کی زبان میں)۔ تَلَبَّخَ: خوشبو لگانا۔ اللَّبْخَة جمع لَبَخات (طب): پلٹس (poultice)، مرہم (عوام کی زبان میں) اللَّبِیخ بہت گوشت والا۔ اللَّبِیخَة: خوشبو کا نافہ۔

۴۔ اللَّبَخ واحد لَبَخَة (ن): ایک درخت جس کے پتے اخروٹ کے پتوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ پھول سبزی مائل پیلے ہوتے ہیں اور خوشبو دار ہوتے ہیں۔ عموماً مصر میں بویا جاتا ہے۔

○ لَبَخ و لَبْخ (اسم جنس واحد لبخة) کیکر یا ببول کی ایک قسم۔ لَبْخَة جمع لَبَخات: پلٹس (poultice)، ملائم گودا یا مغز، کھال کو نرم کرنے والی مالش کی دوا، اس کا پلاستر یا پھایا۔ لَبِیخ: موٹا، فربہ، جسیم موٹا تازہ، لحیم، چربی دار گوشت دار، گداز۔

لبد: لَبَدَ ۔لُبُوداً بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ــــ القومُ بالرجلِ: کے ساتھ ہونا، کو گھیرنا۔ ــــ بالشیءِ: سے چمٹنا۔ ــــ الشیءُ بالشیءِ: ایک دوسرے سے گتھ جانا۔ ــــ الثوبَ: کپڑے میں پیوند لگانا۔ ــــ ۔لَبْداً الصوفَ: اون کا نمدہ بنانا۔ لَبِدَ ۔لَبَداً بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ لَبَّدَ الصوفَ: اون کا نمدہ بنانا۔ ــــ الشیءُ: نمدہ کی طرح ہونا۔ ــــ المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کو تر کرنا۔ ــــ شَعَرَهُ: کے بالوں کو گوند وغیرہ سے چپکا کر نمدہ نما کرنا۔ ــــ الکساءَ و غیرَهُ: لباس وغیرہ کو پیوند لگانا۔ اَلْبَدَ بالارض: زمین سے چمٹنا۔ ــــ بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ــــ السرجَ: زین کے لئے نمدہ بنانا۔ ــــ الفرسَ: گھوڑے پر نمدہ کسنا۔ ــــ الشیءَ بالشیءِ: چیز کو چیز سے چپکانا۔ ــــ الرجلُ رأسَهُ: مرد کا دروازہ میں داخل ہوتے وقت اپنا سر جھکانا ــــ الخرقَ: پھٹن کو پیوند لگانا۔

ــــ بصرُ المُصَلِّی: نماز پڑھنے والے کی نگاہ کا سجدہ کی جگہ پر جمنا۔ تَلَبَّدَ الصوفُ و نحوُهُ: اون وغیرہ کا نمدہ بننا۔ ــــ الطائرُ بالارض: پرندہ کا زمین پر بیٹھنا۔ ــــ الرجلُ: دیکھ کر معلوم کرنا۔ ــــ ت الارضُ بالمطر: زمین کا بارش سے ٹھوس ہو جانا۔ اِلْتَبَدَ الورقُ و نحوُهُ: پتوں وغیرہ کا آپس میں چمٹنا۔ ــــ ت الشجرةُ: درخت کا بہت پتوں والا ہونا۔ اللِّبْد جمع لُبُود و اَلْبَاد: اونی چٹائی، زین کے نیچے کا عرق گیر۔ تہ بتہ جمائے ہوئے بال یا اون۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یجفُّ لِبْدُهُ: فلاں کا عرق گیر خشک نہیں ہوتا یعنی وہ ہمیشہ سفر پر رہتا ہے۔ اللَّبَد (مص): نمدہ کہا جاتا ہے: مالُهُ سَبَدٌ و لا لَبَدٌ: اس کے پاس تھوڑا بہت کچھ نہیں۔ اللَّبِد: تہ بتہ جمے ہوئے بال وغیرہ۔ جو نہ سفر پر جاتا ہو نہ اپنے گھر سے نکلتا ہو۔ اللُّبَد: جو نہ سفر پر جاتا ہو نہ گھر چھوڑتا ہو۔ کہا جاتا ہے: مالٌ لُبَدٌ: بہت مال۔ صار الناسُ علیه لُبَداً: لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ابو لُبَد (ح): شیر۔ اللِّبْدَة: کپڑے کا ٹکڑا جس سے قمیص کے سامنے کا پیوند لگایا جائے۔ تہ بتہ جمے ہوئے بال یا اون، ران کا اندرونی حصہ (ح) ٹڈی۔ ــــ جمع لِبَد و لُبَد و اَلْبَاد و لُبُود: شیر کی ایال، اللُّبْدَة جمع لِبَد و لُبَد و اَلْبَاد و لُبُود: شیر کی ایال، تہ بتہ جمے ہوئے بال یا اون۔...... اللابد (فا) جمع لُبَّد (ح): شیر، کہا جاتا ہے: مالٌ لابدٌ: بہت مال۔ اللَّبَّاد: نمدہ گر۔ اللُّبَّاد: اون کی ٹوپی یا نمدے کی قبا۔ اللُّبَدَى: مجتمع لوگ، لوگوں کی بھیڑ۔ (ح) پرندہ جو زمین پر بیٹھا رہے اور بغیر اڑائے نہ اڑے۔ اللَّبُود (ح) چمچچڑ۔ اللَّبِید: توبرا، بورا، چھوٹا تھیلا۔ ــــ و اللُّبَادَى و اللُّبَّادَى (ح): پرندہ، جو زمین پر بیٹھا رہے اور اڑائے نہ اڑے، بٹیر، لوا۔ المُلْبِد (فا): زمین سے چمٹنے والا فقیر۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مُلْبِدٌ: فلاں شخص بہت فقیر ہے۔ (ح): شیر۔ المُلْبَد و المُلَبَّد: پیوند کیا ہوا۔ المَلْبُود: پیوند شدہ۔ تیسٌ مَلْبُودٌ: بھرے ہوئے جسم کا نر چکارا۔

○ لَبَدَ ۔لُبُوداً ب: سے چمٹنا، چپکنا، سے وابستہ رہنا، سے بندھنا، پر چڑھنا، میں رہنا، میں اقامت کرنا، میں ٹھہرنا۔ لَبَّدَ هُ: (اون) کا نمدہ بنانا، کو چٹائی کی طرح بنانا، کو نمدہ کا استر لگانا، (اولوں کا گھاس کو) پیس ڈالنا، گرادینا، (کپڑے کو) کلف دینا۔ اَلْبَدَ ب: سے مضبوطی کے ساتھ چمٹنا، سے وابستہ رہنا، سے چمٹا رہنا۔ تَلَبَّدَ: مضبوطی کے ساتھ چمٹنا، وابستہ ہونا، چمٹا رہنا، متحد رہنا، نمدہ بن جانا، چٹائی کی طرح بن جانا، اُلجھنا، پھنسنا، بل کر بنا جانا، گندھنا، ملنا، جڑنا، باہم وابستہ ہونا، بھنچنا، گھٹا چھانا، بادلوں کا گھر آنا ــــ بالغیوم: (آسمان پر) بادل چھانا، بادلوں سے بھر جانا، (چہرے کا) تاریک ہونا۔ لِبْد جمع لُبُود و اَلْبَاد: نمدہ۔ لُبُودٌ من الغمائم: بادلوں کے گھنے، ڈھیر، طبقے۔ لَبَد: اون۔ لَبِد: بندھا ہوا، جڑا ہوا، چپکا ہوا، مربوط، ٹھوس، پختہ، مضبوط۔ لُبَد: لقمان کی ساتویں گدھ (کرگس) (جس کی موت نے لقمان کی زندگی ختم کردی)۔ لمبی عمر سے استعارہ ہے۔ لِبْدَة جمع لِبَد: (شیر کی) ایال، نمدہ کی تنگ ٹوپی۔ نمدے کا ہیٹ، نمدے کی ٹوپی۔ لُبَادَة: چٹائی کی طرح بنائی ہوئی اور دبائی ہوئی اون یا بال، نمدہ۔ لَبَّاد: نمدہ بنانے والا، نمدہ لُبَّادَة جمع لَبَّادَات: گھوڑے یا زین کا کمبل (جمع لبابید) نمدے کی ٹوپی۔ مُلَبَّد بالغیوم: ابر آلود (آسمان)۔ مُتَلَبِّد بالغیوم: ابر آلود آسمان۔

لبز: لَبَزَ ۔لَبْزاً هُ: کو سخت مارنا۔ ــــ الشیءَ: کو بہت کھانا، کو توڑ دینا۔ ــــ فُلاناً: کو برا لقب دینا، کی پیٹھ پر ہاتھ سے مارنا۔

لبس: ۱۔ لَبَسَ ۔لَبْساً علیه الامرَ: پر کسی امر کو خلط ملط کرنا، مشتبہ بنانا۔ ــــ ۔لَبَسَاهُ: کو اس کے معاملہ میں الجھا دینا، شبہ میں ڈالنا، آپ کہتے ہیں: لَبَسَنِی: اس نے مجھے اپنا معاملہ میں شبہ میں ڈال دیا۔ لَبِسَ ۔لُبْساً الثوبَ: لباس پہننا۔ ــــ فلاناً: کی صحبت سے مدت تک متمتع ہونا ــــ فُلاناً علی مافیه: کو قبول کرنا، برداشت کرنا۔ کہا جاتا ہے: لَبِسْتُ علی ذلک اُذُنِی: اس پر میں بہرا بنا رہا، کوئی بات نہ کی۔ لَبِسْتُ لِفُلانٍ اُذُنِی: میں اس کے لئے انجان بنا رہا۔ لَبَّسَ علیه الامرَ: پر معاملہ کو خلط ملط کرنا۔ ــــ الشیءَ: کو چھپانا، الجھا دینا۔ لَا بَسَهُ: سے میل جول کر کے اندرونی حالت معلوم کرنا۔ ــــ الامرَ: کو استقلال سے کرنا۔ اَلْبَسَهُ: کو چھپانا، پوشیدہ کرنا، ڈھکنا کپڑا پہنانا۔ ــــ هُ الثوبَ: کو لباس پہنانا۔ تَلَبَّسَ عَلَیَّ الامرُ: مجھ پر معاملہ خلط ملط ہو گیا، مشتبہ ہو گیا اور مشکل ہو گیا۔ ــــ بالامر و بالثوب: کام میں لگنا، کپڑا پہننا۔ کہا جاتا ہے: تَلَبَّسَ حُبُّهُ بِدَمِی: اس کی محبت میرے خون میں شامل ہو گئی۔ ــــ الطعامُ بالید: کھانے کا ہاتھ سے چپک جانا۔ ــــ بِیَ الامرُ: کام کا (مجھ) سے متعلق ہونا، تعلق ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَلَبَّسَ لِباساً حَسَناً: اس نے خوبصورت لباس پہنا۔ اِلْتَبَسَ بعمل کذا: سے

خلط ملط ہونا۔ ...... عَلَیَّ الامرُ: معاملہ کا (مجھ) پر گڈ مڈ ہونا، مشکوک ہونا، مشکل ہونا۔ اللُّبس: شبہ، دشواری، ابہام، دھندلا پن، ایک قسم کا کپڑا۔ اللَّبس: شبہ، دشواری، ابہام، تاریکی کا ملنا۔ اللِّبس جمع لُبُوس: پہننے کی چیز، کھال اور گوشت کے درمیان کی باریک جھلی۔ لِبسُ الهودج و نحوہ: ڈولی کا پردہ۔ اللُّبسَة والالتباس و اللَّبُوسة و اللُّبُوسة: شبہ، دشواری، ابہام، دھندلا پن۔ اللِّبسَة: پہننے کا ایک طریقہ۔ ایک قسم کا کپڑا۔ اللِباس: اختلاط، اجتماع، شوہر، بیوی۔ جمع لُبس و اَلبِسَة: لباس۔ لباسُ الزهرِ: کلی کا غلاف۔ لِباسُ التقوىٰ: حیاء، شرم۔ اللَّبَّاس: بہت خلط ملط کرنے والا، بہت لباس پہننے والا۔ اللَّبُوس: لباس، زرہ، بہت کپڑے پہننے والا۔ اللَّبِیس: مثل، مانند، نظیر، کپڑا۔ قمیصٌ لَبِیس: بوسیدہ کپڑا۔ التَّلبِیس (مص): حقیقت چھپا کر، خلاف حقیقت کا اظہار۔ المِلبَس: رات۔ ...... والمَلبَس جمع مَلابِس: لباس۔ المُلَبَّس (مفع): شکر چڑھا بادام وغیرہ۔

۲۔ اِلتَبَسَتْ به الخیلُ: گھوڑوں کا کسی کے پاس جا پہنچنا۔

○ لَبِسَ - لُبساً ہ: (لباس) پہننا۔ لَبَّس ہ ہ: کو (کچھ) پہنانا ـــــ ہ ب: کو سے ڈھکنا، کو کالیپ کرنا، کو سے آراستہ کرنا، پر کا خول چڑھانا، کو سے مرصع کرنا ـــــ ہ: پر بیماری وغیرہ کی زردی چھا جانا، پر کپکپی طاری ہونا ـــــ ہ علی: کے لئے کو مبہم غیر واضح بنانا، الجھا ہوا یا پیچیدہ بنانا ـــــ علی: کو دھوکا دینا، الو بنانا۔ لَابَسَ ہٗ: سے قریبی تعلقات ہونا، سے ہم پیالہ و ہم نوالہ ہونا ـــــ ہ/ہ: سے قریبی رابطہ رکھنا ـــــ ہ: کو (ماحول، معاشرتی ماحول، حالات کا) گھیر لینا۔ اَلبَس ہ ہ: کو (کوئی کپڑا وغیرہ) پہنانا ـــــ ہ: کو لیپ کرنا، کو آراستہ کرنا، کو ڈھکنا۔ تَلَبَّس ب: (کوئی کپڑا) وغیرہ پہننا، سے ڈھکا ہوا ہونا، میں ملفوف ہونا یا میں ملوث ہونا، میں کھنچ کر چلے جانا، کو خواہ مخواہ چھیڑنا ـــــ علی: کیلئے مبہم، ناقابل فہم، مشتبہ ہونا، غیر واضح ہونا۔ اِلتَبَسَ علی: کے لئے مبہم ہونا، مشتبہ ہونا، غیر واضح ہونا ـــــ ب: سے خلط ملط ہونا ـــــ ہ ب: کو غلطی سے کوئی سمجھ بیٹھنا۔ لُبس و لَبس و لُبسَة: اُلجھن، گڈمڈ، گڑبڑ، ابتری، پریشانی، گھبراہٹ، الجھاؤ، پیچیدگی، دھندلا پن، تاریکی، تذبذب، غیر یقینی حالت، عسیر الفہمی، ابہام۔ کان فی لبس من امرہ: کے بارے میں متذبذب ہونا، کے متعلق شکوک و شبہات رکھنا۔ لِبس جمع لُبُوس: کپڑے، لباس، پوشاک، جوڑا۔ لِبسَة: پہننے کا انداز، وضع قطع۔ لباس جمع لِباسات و اَلبِسَة: کپڑا، لباس، پوشاک، زیر جامہ۔ لباس الرأس: تیچلی ٹوپی۔ لِباسُ التقوىٰ: شائستگی، حیا، پاکبازی، شرافت، شرم۔ لباس رسمی و لباس عسکری: وردی۔ لباس السهرة: شام کا لباس۔ لباس وطنی: قومی لباس۔ البسة جاهزة: ریڈی میڈ کپڑے۔ لَبِیس: پہنا ہوا، پہنے ہوئے کپڑے، مستعملہ کپڑے (second hand clothes) دریائے نیل کی ایک قسم کی مچھلی۔ لَبُوس: کپڑا، بتی، شیافہ (suppository)۔ لَبُوس رسمی: وردی۔ مَلبَس جمع مَلابس: لباس، سوٹ، جمع کپڑے، لباس پوشاک۔ ملبس الوقایة: حفاظتی لباس۔ ملابسُ التشریفة: دعوتی لباس۔ ملابس داخلية و خارجية: زیر جامہ اور اوپر پہننے کے کپڑے۔ ملابس رسمية: وردی، ملازموں کی وردی۔ ملابس المیدان: فیلڈ یونیفارم۔ مَحَلُّ الملابس: ریڈی میڈ کپڑوں کی دوکان۔ تلبیس: لباس پہنانا، منڈھنا، کوٹ لگانا، خول چڑھانا، مسالہ چڑھانا، تہ چڑھانا، صندوق میں رکھنا، صندوق میں بند کرنا، غلاف چڑھانا، میان میں رکھنا، ڈھانپنا، دیوار پر مسالہ چڑھانا یا منہ چڑھانا، دیوار پر سفیدی پھیرنا، دیوار کی سفیدی، پلاستر، گھوڑے پر پالان یا زین ڈالنا، پچی کاری، جڑاؤ کاری، فریب، دھوکا، چال، حیلہ سازی، عیاری، حیلہ گری، دغا، دغابازی۔ تَلبِیسَة: بتی، شافیہ (suppsitory) مُلابسة: راہ و رسم، میل جول، گہری دوستی، بے تکلفی، قریبی تعلقات۔ مُلابَسَات: تعلقات، ناطے، روابط، رشتے، ساتھ کی چیزیں، ساتھ ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات، گرد و پیش کے حالات، گرد و پیش، ماحول۔ قضایا التلبس: ایسے کیس (حالات) جن میں مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ (cases of flagrant delicto)۔ التباس: الجھن، پریشانی، گھبراہٹ، الجھاؤ، پیچیدگی، دھندلا پن، ابہام، شک و شبہ، شک۔ دفعُ الالتباس: تصحیح، اصلاح، درستی، تلافی، توضیح، وضاحت۔ احاط به الالتباسُ: مکمل طور پر مبہم اور غیر واضح ہونا، تاریکی میں لپٹا ہوا، دھندلا ہونا۔ مَلبُوس: پہنا ہوا، مستعمل کپڑے، جس پر کسی کا سایہ ہوا، ہیجانی کیفیت یا مذہبی وجد میں۔ مَلبُوسات: لباس، پوشاک، کپڑے۔

○ مُلَبِّس: پیچیدہ، الجھا ہوا دھندلا سا، مشکوک، مشتبہ، مرصع، پچی کاری کا، جڑاؤ کام والا، جڑا ہوا، کوٹ کیا ہوا، شکر چڑھا، قند کے قوام میں پکا ہوا، مربہ بنایا ہوا۔ مُتَلَبِّسًا بالجَرِیمَة: رنگے ہاتھوں (پکڑا ہوا) جرم کرتے ہوئے۔ مُلتبس: الجھا ہوا، پیچیدہ، دقیق، مشکل، دشوار، دھندلا، مبہم غیر واضح، مشکوک، مشتبہ، غیر یقینی۔

لبش: لَبَّشَ: جانے یا سفر کیلئے اپنی چیزوں کو یا سامان کو کسی ترتیب کے بغیر اکٹھا کرنا (عوام کی زبان میں)۔

لبط: ا۔ لَبَطَ - لَبطًا بفلان الارضَ: کو بچھاڑنا، زمین پر پٹکنا ـــــ لَبطاً البعیرُ او البغلُ: اونٹ یا خچر کا زمین پر پاؤں مارنا، دوڑنے میں لاتیں پٹکانا (سریانی لفظ)۔ لُبِطَ به: گرایا جانا، بیماری وغیرہ سے گر پڑنا، پچھاڑا جانا۔ عام لوگ کہتے ہیں: لبط العجینُ و نحوہ: گندھا ہوا آٹا وغیرہ، نرم ہو گیا اور پھیل گیا اور اس سے نپٹنا مشکل ہو گیا۔ تَلَبَّطَ و التَبَطَ البعیرُ: اونٹ کا لات مارنا، دوڑنے میں لات پٹکنا ...... الرجلُ: زمین پر لوٹنا، مضطرب و حیران ہونا ...... فی الامر: میں کوشش کرنا، محنت کرنا، حیلہ کرنا۔ اللَّبطَة: لَبَطَ کا اسم مرۃ۔ اللَّبطَة: الالتباط کا اسم۔ لنگڑے کی دوڑ۔ المَلبُوط (مفع): رجلٌ مَلبُوطٌ به: متحیر۔

۲۔ لُبِطَ به: زکام زدہ ہونا۔ اللُّبطَة: زکام۔

۳۔ الاَلبَاط واحد لَبط: چمڑے، کھالیں۔

○ لَبَطَ - لَبطًا: لبط به الارض: کو زمین پر گرانا، پچھاڑنا ـــــ: (جانور کا) لاتیں مارنا۔ ادھر ادھر سرپٹ دوڑنا۔

لبع: لَبَعَ: بسیار خور ہونا (عوام کی زبان میں)۔

لبق: الَبِقَ - لَبقًا الشیءَ: کو نرم کرنا۔ لَبِقَ - لَبقًا و لَبُقَ - لَباقَةً: ماہر ہونا، ذہین ہونا، نرم اخلاق ہونا ـــــ الثوبُ و نحوہُ بفلان: لباس وغیرہ کا کو زیب دینا۔ لَبَّقَ الشیءَ: کو نرم کرنا ـــــ لهُ الثوبَ و نحوهُ: کو لباس پہنا کر دیکھنا آیا وہ اسے زیب دیتا ہے۔ عوام کہتے ہیں: لَبَّقَ لهُ اسماً: کو سے ملقب کرنا، کو کا نام دینا۔ اللَبِق م لَبِقَة و اللبیق م لَبِیقَة: نرم خو، نرم اخلاق والا، قابل، ذہین، شگفتہ، زندہ دل۔

○ لَبُقَ - لَبَاقَةً: چالاک ہونا، ماہر ہونا، شائستہ خوش خلق ہونا، پاکیزہ، شائستہ اخلاق و عادات والا ہونا۔ لَبِقَ - لَبَقًا: چالاک ہونا، ماہر ہونا، شائستہ ہونا، خوش خلق ہونا، پاکیزہ ہونا، شائستہ اخلاق و عادات والا ہونا ـــــ ب: (کپڑوں کا) پر سجنا، کو زیب دینا، کو فٹ آنا۔ لَبَّقَ

ھ. کے مطابق ہونا، کرنا، کو ٹھیک ٹھاک کرنا، کو قرینہ سے لگانا۔ لَبَق: چالاکی، تیز طبعی، باریکی، لطافت، نکتہ سنجی، باریک بینی، مہارت، اپج، خوش تدبیری، موزونیت، شائستگی، سلیقہ، ادب آداب۔ لباقۃ بمعنی لَبَق: تیز، شائستہ اخلاق وعادات، دلکشی، خوش اسلوبی۔ لَبِق و لبیق: چالاک، باریک بین، دقیقہ سنج، شائستہ اخلاق وعادات والا، شستہ، مناسب، دل خوش کن۔

لبک: لَبَکَ ـُ لَبْکاً و لَبَّکَ الامرَ او الشیءَ: کو خلط ملط کرنا، ملا دینا۔ ـــ الثرید: ثرید کو کھانے کے لئے اکٹھا کرنا (ثرید: شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی)۔ ـــ القومُ بین الشاء: لوگوں کا بکریوں کو خلط ملط کر دینا۔ عوام کہتے ہیں: لَبَکْتُہ بہ: اس نے اسے اپنے معاملہ کے بارے میں الجھن میں ڈال دیا۔ لَبِکَ ـَ لَبَکاً و تَلَبَّکَ و التَبَکَ الامرُ: مختلط و مشتبہ ہونا۔ اَلْبَکُ: فحش کلامی کرنا، گفتگو میں غلطی کرنا۔ اللَّبَکُ واللَّبَکَۃ: مخلوط چیز۔ کہا جاتا ہے: وقع فی لبکۃ: وہ الجھن میں پڑ گیا۔ امرٌ لَبِکٌ و لَبِیْکٌ: خلط ملط اور مشتبہ معاملہ۔ اللَّبِیکَۃ: لقمہ یا ثرید کا ایک حصہ۔ اللُّباکۃ واللَّبِیکۃ: جماعت، گروہ۔ کہا جاتا ہے: وقع فی لبیکۃ: وہ الجھن میں پڑ گیا۔

○ لَبَکَ ـُ لَبْکاً و لَبَّکَ ھ: کو ملانا، خلط ملط کرنا، کی آمیزش کرنا۔ ھ: کو درہم برہم کرنا، الجھانا، گڈمڈ کرنا، خلط ملط کر دینا، مکدر کرنا، خراب کرنا، تہ و بالا کرنا۔ لَبِکَ ـَ و تَلَبَّکَ و التَبَکَ: الجھن میں پڑنا، درہم برہم ہونا، الٹ پلٹ ہو جانا، بے ترتیب ہو جانا، تہ و بالا ہو جانا، غیر منظم ہو جانا۔

لبن: ۱۔ لَبَنَ ـِ لَبْناً فلاناً بالعصا: کو زور سے لاٹھی مارنا۔

۲۔ لَبَنَ ـُ لَبْناً الرجلَ: کو دودھ پلانا۔ لَبِنَ ـَ لَبَناً الشاۃُ: بکری کا دودھ زیادہ ہونا۔ اَلْبَنَ القومُ: قوم کا بہت دودھ والا ہونا صفت لابنون و مُلبنون۔ ـــ الرجلُ: تلبینہ بنانا ـــ ت الشاۃُ: بکری کے تھنوں میں دودھ اترنا۔ اِلْتَبَنَ: دودھ چوسنا۔ اِسْتَلْبَنَ: دودھ طلب کرنا۔ اللابِن (فا) م لابنۃ جمع لابنات و لَوَابن: دودھ والا، بہت دودھ والا، دودھ پلانے والا۔ اللَّوَابن: تھن۔ اللَّبَن (مص) جمع البان: دودھ۔ لبنۃ: کچھ دودھ۔ لبنُ الشجرۃ: درخت کا دودھ (درخت کا پانی)۔ لبنُ الطیر (ن) (الصاصل): ایک پودا، پھول جس کے سفید اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ یورپ، ایشیا کے معتدل علاقوں، متوسط علاقوں اور جنوبی افریقہ میں اس کی بہتات ہے۔ اس کی بعض اقسام آرائش کیلئے اگائی جاتی ہیں۔ اللَّبِن: دودھ کا بہت دلدادہ۔ دودھ پینے والا۔ اللَّبِنَہ و اللَّبِنَۃ: دودھ والی۔ اللَّبِنِیَّۃ (ط): دودھ، چاول اور گوشت سے تیار کیا جانے والا کھانا۔ اللُّبان (ن) صنوبر (ن): کندر۔ اللَّبان: سینہ یا دونوں پستانوں کے درمیان کا حصہ۔ اس کا اکثر استعمال کھروں والے جانور کے سینہ کے لئے ہوتا ہے (جیسے گھوڑی کا سینہ)۔ اللِّبان: دودھ۔ کہا جاتا ہے: ھو اخوہ بلِبان امہ: وہ اس کا دودھ شریک بھائی ہے۔ بلَبنِ امّہ: نہیں کہا جاتا۔ اللبّان عند العامۃ: دودھ فروش۔ اللَّبُون: دودھ کا بہت دلدادہ۔ ـــ واللبونۃ جمع لِبان و لِبن و لُبُن ولبائن: دودھ والی۔ کہا جاتا ہے: کم لُبنُ غنمك؟: تمہاری بکریوں میں کتنی دودھ والی ہیں؟۔ المَلْبُون م لَبِینَۃ: دودھ سے پرورش پایا ہوا۔ اللُّبْنَی (ن): ایک درخت جس سے شہد کی طرح دودھ نکلتا ہے۔ عسل اللُّبْنی: اس درخت سے نکلنے والی گوند۔ التَّلْبِین والتَّلْبِینۃ: بھوسی، دودھ یا شہد سے تیار کیا ہوا حریرۃ۔ المَلْبَن (ط): ایک قسم کی کھانے کی چیز جو نشاستہ، چینی اور گلاب کے پانی سے تیار کی جاتی ہے۔ المِلْبَن: دودھ صاف کرنے کی چھلنی، دودھ دوہنے کا برتن۔ المَلْبَنۃ: چمچ، چمچہ۔ عشبٌ مَلْبَنۃٌ: ایک قسم کی گھاس جس سے جانور دودھ زیادہ دینے لگتے ہیں۔ المُلَبِّن عند العامۃ: اینٹیں بنانے والا۔ المَلْبُون: دودھ سے پرورش پانے والا۔ دودھ کے نشہ والا۔

۳۔ لَبِنَ ـَ لَبَناً الرجلُ: بہت کھانا۔

۴۔ لَبِنَ ـَ لَبَناً الرجلُ: تکیہ کی وجہ سے کی گردن میں درد ہونا۔ لِبنُ القمیص: کرتے کی کلی۔ اللَّبِینَۃ: کرتے کی کلی۔

۵۔ لَبَّنَ: فیصلہ کرنے کے لئے مجلس منعقد کرنا۔ مجلسٌ لبنٌ: ضروری اور اہم کام کے متعلق فیصلہ کے لئے منعقد ہونے والی مجلس۔ اللُّبانۃ جمع لُبان و لُبانات: معاملہ، کام، فرائض، ذمہ داریاں۔ قضیتُ لُبانتی: میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔

۶۔ لَبَّنَ: اینٹیں بنانا ـــ الشیءَ: کو چوکور بنانا۔ اللَّبِن واحد لَبِنۃ و اللِّبن واللبن: کچی اینٹیں۔ اللَّبّان: اینٹیں بنانے والا۔ المِلْبَن: اینٹ بنانے کا سانچہ۔ اینٹیں لیجانے کی ریڑھی۔

۷۔ تلَبَّنَ الرجلُ: سست ہونا، دیر کرنا۔

○ لَبَّنَ: اینٹ بنانا۔ اِلْتَبَنَ: دودھ چوسنا، پستان یا تھن سے دودھ پینا۔ لَبِن و لَبْن: کچی اینٹیں، کچی اینٹ۔ لَبَن جمع اَلْبان: دودھ، دہی۔ الْبان: دودھ کے کارخانے کی مصنوعات، دودھ کی مصنوعات جیسے مکھن، ملائی پنیر۔ لَبَنُ المخض: چھاچھ، مکھن نکلی لسی۔ butter milk۔ شِرْشُ اللَّبَن: دودھ یا دہی کا پانی۔ ماء الجبن۔ مِیزانُ اللبن: شیرپیما، معیار اللبن، دودھ کے خالص ہونے کا امتحان کرنے والا آلہ۔ فرعُ الالبان: ڈیری ڈیپارٹمنٹ dairy department۔ لَبَنِی: دودھ کا۔ (صفت)، دودھیا، دودھ جیسا، دودھ کے متعلق۔ لَبَنِیۃ: دودھ سے تیار کیا ہوا کھانا a dish prepared of milk۔ لَبان: پستان، چھاتیاں۔ لُبان: لوبان frankinense۔ لُبان جاوی: ملک جاوا کا لوبان۔ لُبان ذکر: لوبان، مشرقی لوبان۔ لُبان شامی: ایک قسم کی رائی یا گوند۔ لُبان العذراء: میگنیشیا (magnesia)۔ لِبان: دودھ چوسنا، دایہ گری کرنا۔ لَبّان: اینٹ بنانے والا، دودھ والا۔ لُبانۃ جمع لُبانات و لُبان: آرزو، خواہش تمنا، مقصد، غرض، منزل مقصود، اختتام، انجام، کام، اہم کام، کار عظیم۔ لِبانۃ: ڈیری، دودھ کی مصنوعات بیچنا یا بنانا۔ لَبِنۃ و لَبون و لَبونۃ جمع لِبان لُبن و لُبُن و لبائن: دودھ دینے والی، دودھیل میں۔ حیوانٌ لبونٌ: تھن والے یا دودھ پلانے والے جانور۔ لُبنی: گوند والا درخت۔ لُبنان: ایک ملک کا نام Lebanon۔ لُبنانی: لُبنان کا جمع لُبنانیون۔ مَلْبَن: نشاستہ، چینی مصطگی اور پستہ سے تیار کردہ مٹھائی۔ مَلْبَنۃ: ڈیری dairy۔

لبو: اَللَّبْوَۃ و اللَّبُوَۃ (ح): شیرنی اسے لَبُؤۃ و لَباءۃ و لَبَاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ (اس کا ذکر مادہ لبأ میں بھی آ چکا ہے)۔

لبی: لَبِیَ یَلْبَی لَبًا من الطعام: بہت کھانا کھانا۔ لَبَّی تَلْبِیَۃ الرجلَ: کو جواب دینا اور لبیک کہنا۔ کہا جاتا ہے: بینھم المُلْتَبِیَۃ: ان میں ایسا اتفاق ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھتے۔

○ لَبّی ھ: (دعوت پکار) پر عمل کرنا، کی تعمیل کرنا۔ ھ: کا جواب دینا، پر راضی ہونا، کو مان لینا، کے حسب ہدایت یا خواہش کام کرنا، حکم بجا لانا، حکم کی تعمیل کرنا۔ لَبّی نِداءَ ربّہ: پروردگار کے بلاوے پر دنیا کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ جانا۔ لَبَّیْكَ: میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، میں تمہاری اطاعت پر قائم ہوں۔ تَلْبِیَۃً لِ: کی تعمیل میں، کے حسب خواہش یا حسب ہدایت۔ تَلْبِیَۃً لدعوتہ: اس کی دعوت پر۔ لیبیریا: ایک ملک کا نام Liberia۔

لتّ: ا۔ لَتَّ ـلَتًّا الشیءَ: کو باریک کرنا، پیسنا، باندھنا، جکڑنا۔ ـ السویقَ: ستو میں پانی یا گھی ملانا۔ ـ الماءُ الثیاب و غیرھا: پانی کا کپڑے وغیرہ تر کرنا، عوام لتّ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی بہت باتیں کرے جن سے کچھ فائدہ نہ ہو۔ لُتَّ فلانٌ بفلان: فلاں کا فلان سے چمٹ جانا۔ اللَّاتّ: لَتَّ سے اسم فاعل۔...... اللاتُ: زمانہ جاہلیت میں ایک بت کا نام۔ اِل کا مؤنث ہے جو آشوریہ میں ایک دیوتا تھا۔ اس جہت سے اللات کا معنیٰ ہوگا دیوی۔ اللَتّ (مص): کلہاڑی، بڑا کلہاڑا۔ (فارسی لفظ): اللُّتات: آمیزہ، درخت کی چھال جو باریک کی جائے۔ کہا جاتا ہے: ما ابقی منی المرضُ الالتاتا: بیماری نے مجھ میں سوائے خشک جلد کچھ نہیں چھوڑا۔

۲۔ الَتَّ الطائرُ: پرندہ کا اپنا سر بازوؤں میں چھپالینا۔

۳۔ اللَتلَتَة: جھوٹی قسم۔...... عند العامة: بے سود باتیں، ایسے کام کرنا جو غیر اہم ہوں۔ فعل لَتلَتَ: بڑ ہانکنا اس سے صفت لتلات ہے یعنی بڑ ہانکنے والا مونث لتّلاتہ ہے۔

◯ لَتَّ ـلَتًّا ہ: کو پیسنا، کچلنا، کوٹنا۔ ہ: آٹا وغیرہ میں پانی ملانا خمیر ملا آٹا گوندھنا...... ہ ب: کو میں چکر دینا، گول پھرانا، لپیٹنا، پر کالیپ کرنا۔ لَتّ: بک بک کرنا، فضول باتیں کرنا، بکواس کرنا، ہرزہ سرائی کرنا، یاوہ گوئی کرنا۔ لَتَّ و عَجَنَ فی مسالۃٍ: کسی مشکل یا مسئلہ کو از سر نو اٹھانے سے نہ تھکنا، کسی مسئلہ پر آگے پیچھے بحث مباحثہ کرنا۔ لتّ: بکواس، طفلانہ گفتگو۔ لتّات: بچوں کی طرح گفتگو کرنے والا، بک بک کرنے والا، گپی، باتونی، باتونی مقرر، بکی مقرر۔

لتأ: لتأ ـلتأ فلانا فی صدرہ: کو دھکا دینا۔ کہا جاتا ہے: لَتَأَتْ به اُمُّهُ: اس کی ماں نے اسے جنا...... ہُ بحجر: کو پتھر مارنا...... إلیه بعینه: کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، گھورنا ـ الشیءَ: کو کم کرنا۔ اَلمِتیءُ: اپنی جگہ پر رہنے والا۔

لتب: لتبَ ـلَتبًا و لُتوبًا به: سے چمٹنا، چپکنا...... فیه: میں پکا رہنا، جما رہنا، مستحکم ہونا...... فی منحر الناقة: اونٹنی کے گلے میں بھالا مارنا...... و لَتَّبَ السرجَ علی الفرس: گھوڑے پر زین کسنا۔ کہا جاتا ہے: لَتَّبَ علیه ثوبَهُ: اس نے لباس پہنا جیسے اسے اتارنے کا ارادہ نہ ہو۔ اَلتَبَ علیه الامرَ: پر کوئی بات یا کام واجب کرنا۔ تَلَاتَبَ القومُ: لوگوں کا متحد رہنا۔ ـــ القومُ بالرماح: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔ اِلتَتَبَ الثوبَ: لباس یا کپڑے پہننا۔ اللاتب (فا): چپکنے والا، جما رہنے والا۔ المِلتَب: گھر میں پڑا رہنے والا۔ المَلاتِب: پرانے کپڑے۔

لتح: لَتَحَ ـلَتحاہُ: کو کنکری مار کر منہ یا جسم کو زخمی کر دینا۔ ـــ ہُ ببصرہ: پر نگاہ ڈالنا۔ ـــ فلانا: سے سب کچھ لے لینا۔ لَتِحَ ـلَتَحا: بھوکا ہونا صفت لَتحان م لَتحَی۔ رجُلٌ لَتِحٌ و لاتِحٌ و لَتاحٌ و لُتَحَةٌ جمع لِتاح: عقل مند، چالاک آدمی۔ کہا جاتا ہے: هو اَلتَحُ شِعراً منه: وہ فصیح و بلیغ اظہار میں ان سے بہتر شاعر ہے۔

لتخ: لَتَخَ ـلَتخاہُ: کو آلودہ کرنا۔ ـــ الشیءَ: کو پھاڑنا۔ تَلَتَّخَ بالشیء: سے آلودہ ہونا۔

لتد: لَتَدَ ـلَتدًا فلانا بیدہٖ: کو مکا مارنا۔

لتر: اللِتر و اللِیتر: لیٹر (Liter یا litre) (سیال اشیاء ناپنے کا آلہ) جمع لِترات۔

لتز: لَتَزَ ـلَتزاہُ: کو مکا مار کر ہٹانا۔

لتم: لَتَمَ ـلَتماہُ: کو مارنا، کے نتھنے پر نیزہ مارنا۔ ـــ السهمَ: تیر پھینکنا ـــ ہُ بسهمٍ: کو تیر مارنا۔ ـــ فلانٌ بشفرته فی لبَّةِ بعیرہٖ: اونٹ کے بالائی سینہ پر تلوار کی نوک مارنا...... تِ الحجارۃ رِجل الماشی: پتھر کا پیدل چلنے والے کے پاؤں کو زخمی کرنا۔ اللَتَم: زخم۔

◯ لِتمُوس: لٹمس (litmus)۔ لِتوانیا لتھوانیا Lithuania۔

لتن: اللاتینیّ جمع لاتینیون و لاتین م لاتینیّة جمع لاتینیات: لاتینوم (اٹلی کا ایک علاقہ) کے متعلق، لاتینوم کا۔ لاتینی۔ کہا جاتا ہے: شعبٌ لاتینی: لاتینی عوام۔ لغة لاتینیة: لاتینی زبان۔

لتی: التی و التِ و اللتُ جمع اللاتی و اللاتِ و اللَواتی و اللَواتِ و اللَوا (تاء کے حذف کیساتھ) و اللاوی و اللاءِ و اللاءات۔ تثنیہ میں: اللتانِ و اللتانّ و اللتا (نون کے بغیر) حالت رفع میں اور اللَتَینِ نصب اور جر کی حالت میں: الذی کا مؤنث (جو) اللَتَیّا و اللُتَیّا: التی کی تصغیر۔ تثنیہ میں: اللتَیّان و اللُتَیّان۔ جمع کی صورت میں: اللتَیّات و اللُتَیّات: کہا جاتا ہے: وقع فی اللتَیّا و التی: وہ مختلف بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا اور کہا جاتا ہے: بعد اللتَیّا والتی صار کذا: بہت جھگڑے فساد کے بعد ایسا ہوا۔

لثّ: لَثَّ ـلَثًّا و اَلَثَّ بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ـــ علیه: پر اصرار کرنا ـــ المطرُ: کئی دن تک بارش برستا رہنا۔ لَثَّ الشجرُ: درخت کا تر و تازہ ہونا، درختوں پر اوس پڑنا۔ اللَثّ: اوس شبنم۔

۲۔ لَثلَثَ المطرُ: بارش کا کئی دن برستے رہنا ـــ بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ـــ علی فلانٍ: پر اصرار کرنا۔ ـــ الرجُلُ: کمزور ہونا۔ ـــ البعیرَ: اونٹ کو تھکانا۔ ـــ ہُ فی التراب: کو مٹی میں لٹانا ـــ ہُ عن کذا: کو سے منع کرنا، روکنا۔ ـــ کلامَهُ: بات صاف نہ کہنا۔ ـــ فی الامر: میں تردد کرنا، دیر لگانا۔ کہا جاتا ہے: لَثلِثوا بنا: ہمیں تھوڑا آرام دو۔ تَلَثلَثَ بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا ـــ فی الأمر: کسی بات یا کام میں تردد کرنا، دیر لگانا۔ ـــ فی التراب: مٹی میں لوٹنا۔ ـــ الغیمُ والسحابُ: ابر و بادل کا آنا جانا۔ اللَثلَث و اللَثلاث و اللثلاثة و المُلَثلِث: ہر معاملہ میں دیر کرنے والا، جب کبھی تمہیں گمان ہو کہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا تو کاہلی کر جائے۔

لثأ: لَثَأ ـلَثأ الکلبُ: کتے کا منہ ڈالنا یا چپڑ چپڑ کر کے پانی پینا۔ اللَثأ: درخت سے بہنے والی چیز۔

لثد: لَثَدَ ـلَثدًا المتاعَ: سامان کو ترتیب سے رکھنا، اوپر تلے جمانا۔ اللِثدَة: ٹھہرنے والی، کوچ نہ کرنے والی جماعت۔

لثط: لَثَطَ ـلَثطًا فلانًا: کو ہلکا سا مارنا ـــ ہُ: کو ہلکے سے پھینکنا۔

لثع: اللِثَة: دانتوں کی جڑوں سے ہونٹ کا ملا ہوا حصہ۔ الأَلثَع م لَثعاء جمع لُثع: ہکلا۔

لثغ: لَثِغَ ـلَثَغا و تَلاثَغَ: ہکلا ہونا صفت اَلثَغ م لَثغاء جمع لُثغ۔ اللُثغَة: ہکلاپن۔ اللثغة (ع ا): منہ۔

◯ لَثِغَ ـلَثَغا: لکنت کرنا، تتلا کر بولنا۔ لَثِغَ بالسین: سین کے لفظ میں لکنت کرنا۔ لُثغة: ناقص تلفظ، لکنت، تتلاپن، الثغ م لثغاء جمع لُثغ: توتلا، لکنت کرنے والا۔

لثق: لَثِقَ ـلَثَقا الیومُ: دن کا ساکن ہوا والا اور نمناک ہونا۔ ـــ المسافرُ: کیچڑ میں پڑنا۔ ـــ تْ ثیابُهُ: کپڑوں کا تر ہونا۔ ـــ الطائرُ: پرندے کے پروں کا تر ہونا صفت لَثِق۔ لَثَّقَ الشیءَ: کو خراب کرنا۔ اَلثَقَ الشیءَ: کو تر کرنا۔ تَلَثَّقَ و اِلتَثَقَ: تر ہونا۔ اللَثَق: تری، نمی، کیچڑ۔ کہا جاتا ہے: مشینا فی لَثَقٍ: ہم کیچڑ میں چلے۔ اللَثِق: چپکنے والی مٹی وغیرہ۔ یومٌ لَثِقٌ: ساکن ہوا والا اور نمناک دن۔

لثم: اللَثَمَ ـ و لَثِمَ ـ لَثماً الفمَ او الوجهَ: منہ یا چہرے کا بوسہ لینا۔ لَاثَمَ هُ: کا بوسہ لینا۔ تَلَاثَم: ایک دوسرے کا بوسہ لینا۔ اللاثِم جمع لُثّم (فا) اللَثمة: لثم کا اسم مرۃ، بوسہ۔

۲۔لَثَمَ ـ لَثماً أنفهُ: کے ناک پر مکا مارنا۔۔۔۔۔تِ الحجارۃُ خفَّ البعیر: پتھر کا اونٹ کے پاؤں کو زخمی کرنا، خون آلود کرنا۔۔۔ البعیرُ الحجارۃ بخفِهِ: اونٹ کا پتھر کو ٹھوکر سے توڑ دینا۔۔۔ و لَثِمَ ـ لَثماً و تَلَثَّمَ و الْتَثَمَ الرجلُ: منہ یا ناک پر کپڑا لپیٹنا۔ اللَثم: ناک اور اس کا ارد گرد۔ اللِثمة: گلو بند یا گلو پوش پہننے کا انداز۔ اللِثام جمع لُثُم: ناک اور اس کے ارد گرد لپیٹا جانے والا کپڑا یا نقاب۔

○ لَثم ـ لَثماً ہ: کا بوسہ لینا؛ پر ضرب لگانا، کو زخمی کرنا۔ لَثَّم ہ (چہرے) پر نقاب ڈالنا۔۔۔ ہ: کو ڈھکنا۔ تَلَثَّمَ و اِلْتَثَمَ: نقاب پہننا، اپنے آپ کو چھپانا۔ لَثمة: بوسہ۔ لِثام: نقاب، شال، چادر۔ مُلَثَّم و مُتَلَثِّم: نقاب پوش۔

لثی: لَثِیَ یلثَی لَثًی: تھوڑا سا پانی پینا۔۔۔ القِدرَ: ہانڈی کو خوب چاٹنا۔۔۔ شجرُ السَمُرِ: ببول کے درخت کا نمناک ہونا، گوند بہانا۔۔۔۔۔تِ الیدُ من طِینٍ و نحوِہ: ہاتھ کا مٹی وغیرہ سے لتھڑنا۔ دودھ کی چکناہٹ سے چکنا ہونا۔۔۔ الثوبُ: کپڑے کا پسینہ سے شرابور ہونا اور میلا ہو جانا۔۔۔ اَلْثَی شجرُ السَمُرِ: ببول کے درخت کا نمناک ہونا، گوند بہانا۔۔۔ تِ الشجرۃ ماحولھا: درخت کا ارد گرد کو تر کرنا۔ تَلَثَّی: گوند نکالنا۔۔۔ الشجرُ: درخت سے گوند بہنا۔ اِلْتَثَی: گوند نکالنا۔ اللَثَی: گوند، دودھ کی چکناہٹ، تری، نمی۔ لَثَی الثوب: کپڑے کا میل۔ اللَثِی: تر، گیلا، نم۔ ثَوبٌ لَثٍ: پسینہ میں بھیگا ہوا یا میلا کپڑا۔ اللِثَة جمع لِثًی و لِثاتٌ و لُثِیٌّ: مسوڑھا، عوام اسے نیرۃُ الأسنان کہتے ہیں: اللَثَاة: حلق کا کوا (ن): ایک درخت کا نام۔ اللَثِیُّ: گوند کھانے کا شائق۔ الحروف اللِثَوِیَہ: ث، ذ، ظ۔

لَجّ: اللَجَّ ـ لَجَجًا و لَجَاجاً و لَجَاجَةً: ضد سے جھگڑنا، دشمنی میں ثابت قدم رہنا۔۔۔ فی الامر: کام میں لگا رہنا۔۔۔ بہ الھمُّ و نحوُہُ: کو غم لگنا۔۔۔ علی فلان فی المسألةِ: سے مسئلہ میں اصرار کرنا اور اسکو جلد نمٹانے کا مطالبہ کرنا۔ لَجَجَ القومُ: لوگوں کا گہرے پانی میں داخل ہونا۔۔۔ تِ السفینةُ: جہاز کا بڑے سمندر میں داخل ہونا۔ لَاجَّ خصمَهُ: فریق مخالف سے دشمنی میں ثابت قدم رہنا۔ اَلَجَّ القومُ: لوگوں کا گہرے پانی میں داخل ہونا۔۔۔ ت الابلُ: اونٹوں کا آوازیں نکالنا اور بڑبڑانا۔ تَلَجَّجَ متاعَ فلان: کسی کے سامان پر دعوی کرنا۔ اِلْتَجَّ البحرُ: سمندر کا ہیجان اور طوفان میں آنا، متلاطم ہونا۔۔۔ تِ الارضُ: زمین کا کثیر اور لمبی نباتات والی ہونا۔۔۔ ت الارضُ بالسراب: زمین میں سراب کا گہرے سمندر جیسا ہونا۔۔۔ الامرُ او الموجُ: معاملہ یا لہر کا بڑا اور گڈمڈ ہونا۔ الظلامُ: اندھیرے کا گھٹا ٹوپ ہونا۔۔۔ ت الاصواتُ: آوازوں کا مخلوط ہونا۔ اِسْتَلَجَّ متاعَ فلان: فلاں کے مال و متاع پر دعوی کرنا۔۔۔ بیمینه: یہ گمان کر کے کہ وہ سچا ہے قسم کا کفارہ ادا نہ کرنا اور اصرار کرنا۔ اللاجّ: بڑا جھگڑالو۔ اللُجّ: پانی کا بڑا حصہ، بڑی جماعت، وادی کا کنارہ، تلوار۔ کہا جاتا ہے: فرسٌ أدهمُ لُجّ: بہت سیاہ گھوڑا۔ اللُجَّة جمع لُجَجٌ و لُجّ و لِجاج: پانی کا بڑا حصہ، بڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لُجَّةٌ واسِعَةٌ: فلاں شخص وسعت میں سمندر جیسا ہے۔ اللَجَّة: لجّ کا اسم مرۃ: شور و غل، آوازوں کی کثرت، کہا جاتا ہے بحرٌ لُجاجٌ: بہت وسیع سمندر۔ فلانٌ فی فؤادہ لَجاجَة: فلاں کا دل بھوک سے دھڑک رہا ہے۔ اللجُوج و اللَجُوجَة و اللُجَجَة و المِلجَاج: بڑا جھگڑالو۔ اللُجِّیُّ: لُجّ سے منسوب بحرٌ لُجِّیٌّ: طوفانی اور بے پایاں سمندر۔ المُلتَجَّة: بہت سرسبز زمین، بہت سیاہ آنکھ۔

۲۔اللُجّ: پہاڑ میں سخت جگہ۔ اللُجَّة جمع لُجٌّ و لُجَجٌ و لِجاجٌ: چاندی۔

۳۔لَجلَجَ لَجلَجَةً: ہکلانا۔۔۔ فی صدرہ شیءٌ: کوئی چیز کھٹکنا۔۔۔ اللقمةَ فی فیه: لقمہ کو منہ میں بغیر چبائے گھمانا۔ تَلَجلَجَ: ہکلانا۔۔۔ فی صدرہ شیءٌ: کھٹکنا۔۔۔ بالشیء: کو لینے میں جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے: تلجلجَ دارَهُ منه: کسی سے اس کا گھر لینا۔ اللجلاج: ہکلا، توتلا۔

○ لَجَّ ـ لَجَجًا و لَجَاجًا و لجاجَة: ضدی ہونا، سرکش ہونا، بے رحم اور بے درد ہونا، منہ زور ہونا۔۔۔ فی: میں ثابت قدم ہونا، پر اصرار کرنا، کو شروع کرنا، کو کرتے رہنا۔۔۔ علی: کے پیچھے پڑ جانا، کو دق کرنا، تنگ کرنا، کا ناک میں دم کرنا، کو تکلیف دینا۔۔۔ ب: پر بوجھ ڈالنا، کو پچھاڑنا یا زیر کرنا، کو کمزور کرنا، تھکا دینا، کو سخت نقصان یا صدمہ پہنچانا۔ (بھوک کا) کو سخت اذیت دینا، دق کرنا، ستانا، پریشان کرنا۔ [illegible] ضد سے کے ساتھ بحث مباحثہ یا جھگڑا کرنا۔ اِلْتَجّ: پُر شور ہونا، بہت اونچا ہونا، ہنگامہ خیز ہونا، گرجنا، دھاڑنا، بہت زوروں کا ہونا۔ لُجّ و لُجَّة جمع لُجَج و لِجاج: سمندر کی گہرائی، جھیل، اتھاہ، بے پایاں گہرائی، زمین میں گہرا خوفناک شگاف۔ لُجِّیّ: اتھاہ، بے پایاں، ہولناک گہرائی والا (سمندر)۔ لَجَّة: شور و غوغا، چیخ پکار، آواز، غل غپاڑہ۔ لَجاجَة: جھگڑالو پن، ضد، ہٹ دھرمی، سرکشی، اصرار، ہٹ، استقلال ثابت قدمی۔ لَجُوج و لاجّ: ضدی، سرکش، اڑیل، سنگدل، بے رحم، بضد، مصر، تکلیف دہ، سر ہو جانے والا، چم چچڑ، زبردستی دخل دینے والا، دخل در معقولات کرنے والا۔

لجأ: اللَجَأَ ـ لَجَأً و لُجُوءًا و لجِیءَ ـ لَجَأً و الْتَجَأَ إلی الحصنِ وغیرہ: قلعہ وغیرہ میں پناہ لینا۔ لَجَّأَ تَلْجِئَةً فلاناً: کو مجبور کر دینا۔ اَلْجَأَ فلاناً: کو مجبور کر دینا۔۔۔ هُ: کو بچانا، کی حفاظت کرنا۔۔۔ امرَهُ إلی اللّٰه: اپنے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا۔ تَلَجَّأَ إلیه: کا سہارا لینا۔۔۔ من القوم: اپنے لوگوں سے جدا ہو کر دوسروں کی پناہ میں چلے جانا۔ اللاجِیء جمع لاجِئُون: پناہ گیر جو سیاسی یا دیگر وجوہات کے باعث اپنے ملک سے بھاگ کر کسی دوسرے ملک میں جا پناہ لے۔ اللجأ (مص): بیوی،۔۔۔۔۔ جمع اَلْجاء: قلعہ، جائے پناہ۔ التَلْجِئة (مص) عند الفقهاء: ایسے فعل پر مجبور کرنا جس کا ظاہر باطن کے خلاف ہو۔ المَلْجَأ جمع مَلَاجِیء: پناہ کی جگہ، قلعہ، مامن، پناہ لینا، پناہ گاہ، جہاں ہوائی حملوں کے دوران چھپا جاتا ہے۔

۲۔لَجَّأَ تَلْجِئَةً فلانٌ مالَهُ: مال کو بعض ورثاء کیلئے خاص کر دینا۔ اللُجَأ: وارث۔

۳۔اللَجَأ: واحد لَجَأة (ح): ایک قسم کا کچھوا جو خشکی اور تری دونوں جگہ رہتا ہے۔

لَجَأَ ـ لَجْأً و لجوءًا و لَجِیءَ ـ لَجَأَ إلی: میں پناہ لینا؛ سے رجوع کرنا، کے پاس جایا کرنا، کا سہارا لینا، پر اکتفاء کرنا، سے معلومات حاصل کرنا، ذکر کرنا، کی طرف اشارہ کرنا۔ لَجَّأَہ إلی: کو پر مجبور کرنا، پر کیلئے دباؤ ڈالنا، سے کوئی کام کرنے یا کرانے کے لئے قوت کا استعمال کرنا۔ اَلْجَأ: بمعنی لَجَّأَ، نیز اَلْجَأَہ: کو پناہ دینا، کی حفاظت کرنا، اَلْجَأَ امرَهُ إلی: کو اپنا مقصد یا معاملات سپرد کرنا۔ اِلْتَجَأَ إلی: فرار ہو کر کے پاس چلے جانا، میں پناہ لینا، سے رجوع کرنا، کے پاس جایا کرنا۔ مَلْجَأ جمع مَلَاجِیء:

پناہ لینے کی جگہ، پناہ گاہ، جائے پناہ، مامن، ملجا، ماوی،
گھر، مرکز، مشین گن کا پختہ اڈا، بنکر، زمین دوز جائے
پناہ۔ مَلجَأ الاطفال: نرسری، بچوں کا سکول۔
ملجأ الایتام: یتیم خانہ۔ ملجأ الشیوخ: عمر
رسیدہ لوگوں کا گھر۔ ملجأ العمیان: اندھوں کا
ادارہ۔ ملجأ العَجَزة: بیمارستان۔ ملجأ مُضادٌّ
للغارات الجویة: ہوائی حملوں سے محفوظ رہنے کی
پناہ گاہ (air-raid shelter)۔ لاجِیء: پناہ کا
طالب، پناہ گزین، پناہ گیر، تارک وطن، ہسپتال میں
داخل۔ مُلتَجِیء: پناہ طلب کرنے والا، پناہ
گزین، پناہ گیر۔

لجب: ا۔لَجِبَ ـ لَجَبًا البحرُ: سمندر کا ہیجان میں
آنا۔ ـــ القومُ: قوم کا شور مچانا۔ اللَجَب (مص):
گھوڑوں کی ہنہناہٹ، بہادروں کا شور۔ کہا جاتا ہے:
بحرٌ ذو لَجَبٍ: ہیجان میں آیا ہوا سمندر۔ اللَجِب:
پرشور، شور مچانے والا، سخت شور مچانے والا۔ جیشٌ
لَجِبٌ: بڑا اور چیخ و پکار والا لشکر۔
٢۔لَجُبَ ـ لُجُوبَةً ت الشاةُ: بکری کا کم یا بہت
دودھ والی ہونا (ضد) لَجَّبَتِ الشاة: بکری کا کم یا
بہت دودھ والی ہونا۔ لَجَّبَ ہُ بالسیف: کو تلوار
سے کاٹ ڈالنا۔ اللَجْبَة و اللِجْبَة و اللُجْبَة
و اللَجَبَة و اللَجِبَة و اللِجَبَة جمع لِجاب و
لَجَبات: کم یا زیادہ دودھ دینے والی بکری۔
٣۔المِلجَاب: تیر جس پر پر تو لگائے گئے ہوں مگر پھل نہ
لگایا گیا ہو۔

○ لَجَب: شور، غل، ہوہا، ہلڑ، ہنگامہ، شور و غل، شور و
غوغا، دنگا، شورش، اودھم مچانے والا ایک بڑا لشکر۔
لَجِب: پرشور، ہنگامہ کرنے والا، ہنگامہ خیز، غل مچانے
والا، غوغائی۔

لجذ: ا۔لَجِذَ ـ و لَجَذَ ـ لَجْذًا الرجلُ: کھانا۔ ـــ
الحمارُ: گدھے کا پہلی بار چرنا۔ ـــ ت الماشیةُ
الکَلاءَ: مویشیوں کا گھاس کو اپنی زبانوں کے کناروں
سے کھانا۔ ـــ من الشیء: تھوڑی سی چیز لینا۔ ـــ
لَجْذًا و لَجَذَ الکلبُ الاناءَ: کتے کا برتن کو اندر
سے چاٹنا۔
٢۔لَجِذَ ـ و لَجَذَ ـ لَجْذًا الرجُلَ: ایک دفعہ دیے
جانے کے بعد متواتر سوال کرنا۔ ـــ فلانًا: کو اکسانا۔
لَجَذَنی علی کذا: اس نے مجھے ایسے کام پر اکسایا

لجف: ا۔لَجَفَ ـ لَجْفًا ہُ: کو سخت مارنا۔
٢۔لَجِفَ ـ لَجَفًا ت البئرُ: کنویں کے گرداگرد کا کھودا
جانا صفت لَجْفاء۔ لَجَّفَ البئرَ: کنویں کا اردگرد
کھودنا۔ ـــ الشیءَ: کو اردگرد سے وسیع و کشادہ کرنا۔
تَلَجَّفَ البئرَ: کنویں کے اردگرد کو کھودنا۔ ـــ ت
البئرُ: کنویں کا اردگرد سے کھدا ہوا ہونا، بیٹھ جانا۔ ـــ
الوحشُ الکناسَ: جنگلی جانور کا پناہ گاہ کے ایک
طرف کھودنا۔ اِلتَجَفَ تِ البئرُ: کنویں کے اردگرد کا
کھدا ہونا۔ اللَجَف (مص) جمع اَلجاف: کنویں
کے ایک جانب گڑھا، یا اس کے اطراف میں پانی کی
گرائی ہوئی جگہیں، سیلاب کے بند ہونے کی جگہ،
وادی کا وسط۔ اللِجاف جمع اَلجِفَة و لُجُف:
پہاڑ کا غار کے اوپر بڑھا ہوا حصہ، دروازہ کی دہلیز۔
اللجیفة: دروازہ کا پہلو۔ بئرٌ مُلتَجِفَةٌ: بیٹھا ہوا
کنواں، دھنسا ہوا کنواں۔

لجم: ا۔لَجَمَ ـ لَجْمًا الثوبَ: کپڑا سینا۔ لَجَمَ
الماءُ فلانًا: پانی کا کے منہ تک پہنچنا۔ اَلجَمَ الدابَّةَ:
جانور کو لگام ڈالنا۔ ـــ الناقةَ: اونٹنی کو لگام سے داغ
لگانا۔ ـــ القِدرَ: ہانڈی کے کڑے میں لکڑی ڈال کر
اٹھانا۔ ـــ ہُ عن حاجته: کو حاجت سے روکنا۔ کہا
جاتا ہے: تکلَّمَ فَاُلجِمَهُ و اُلقِمَهُ الحجرَ: وہ
بولا تو میں نے اس کو روک دیا اور خاموش کر دیا۔ ـــ
الماءُ فلانًا: پانی کا کے منہ تک پہنچنا۔ اِلتَجَمَ ت
الدابةُ: جانور کے لگام لگنا۔ اِستَلجَمَ فلانًا
الفرسَ: کو گھوڑے کو لگام لگانے کیلئے کہنا۔
اللَجَمَة: لگام لگانے کی جگہ۔ اللجام: اونٹوں کا
نشان۔ جمع لُجُم و لُجُم و اَلجِمَة: لگام۔ کہا
جاتا ہے: جاء فلان و قد لفظ لِجامَهُ: فلاں
شخص آیا تو تھکاوٹ کی وجہ سے اپنی ضرورت کو چھوڑ چکا
تھا۔ اَتبِعِ الفرسَ لِجامَها: گھوڑے کے ساتھ
لگام بھی دو تا کہ بخشش مکمل ہو۔ اللَجّام: لگامیں
بنانے والا۔ المُلجَم: لگام لگانے کی جگہ۔
٢۔اللُجَم (ح): چھپکلی، مینڈکیں، ایک منحوس جانور،
ہوا۔ اللَجَم جمع اَلجام: متوسط زمین۔ و اللَجم
بمعنی اللُجُم۔ اللُجام: جس سے بدشگونی لی
جائے۔ اللُجمَة: مسطح پہاڑ، زمین کا ایک نام۔
لُجمة الوادی: وادی کا کنارہ۔ اللَجَمَة (ح)۔
اللجم: کا واحد۔ زمین کا ایک نام۔ لَجَمَةُ
الوادی: وادی کا کنارہ یا دہانہ۔ المِکیالُ المُلجَم:
ڈھائی صاع، ایک پیمانہ۔

○ لَجَمَ ـ لَجْمًا ہ: کو سینا، کی سلائی کرنا، بخیہ کرنا۔
لَجَّمَ و اَلجَمَ ہ: (گھوڑے وغیرہ کو) لگام لگانا،
لگام دینا، کی باگ کھینچنا، کو قابو میں رکھنا۔ ـــ ہ: کو باز
رکھنا، روکنا، کھینچنا، جکڑنا، دبانا، کو خاموش کر دینا، پر
لگام رکھنا۔ اُلتُجِمَ: لگام لگنا، لگام دیا جانا، باز رہنا،
جکڑا جانا، دبایا جانا، روکا جانا، سدھایا جانا، مانوس کیا
جانا، مطیع کیا جانا، کی قوت سے کام لیا جانا۔ لِجام
جمع اَلجِمَة و لُجُم: لگام، باگ ڈور، عنان، راس،
باگ مَلجُوم و مُلجَم: لگام دیا ہوا، جکڑا ہوا،
دبایا ہوا، جس کی قوت سے کام لیا گیا ہو۔

لجن: ا۔لَجَنَ ـ لَجْنًا و لَجَّنَ ورق الشجر و
نحوَهُ: پتوں میں آٹا یا جو ملا کر چارہ تیار کرنا۔ لَجَنَ ـ
لَجَنًا بہ: سے چمٹنا۔ تَلَجَّنَ الشیءُ: لیسدار ہونا۔
ـــ القومُ: پتوں میں آٹا یا جو ملا کر اونٹوں کا چارہ تیار
کرنا۔ ـــ راسُهُ: سر کا میلا ہونا۔ اللَجِن: میلا۔
اللجین: پتوں میں آٹا یا جو ملا کر تیار کیا ہوا چارہ۔
٢۔لَجَنَ ـ لُجُونًا و لِجانًا فی المشی: آہستہ چلنا۔ ـــ
البعیرُ: اونٹ کا اڑیل ہونا۔ اللَجُون من
الجمال و النوق: سست رفتار اونٹ یا اونٹنی۔
٣۔اللَجنَة: کمیٹی (Committee)، کسی مسئلہ پر غور
کرنے کی مجلس۔ یہ یا تو یونانی لفظ ہے لیجیون سے یا
لیجیو سے۔ لاتینی لفظ ہے۔ اللُجَین: چاندی
(مصغر ہے اس کا مکبر نہیں آتا)۔ اللُجَینِیَّة: دراہم
(چاندی کے)۔

○ لَجِنَ ـ لَجَنًا ب: سے چمٹنا، چمٹ جانا، لپٹنا، سے
لگا رہنا، چسپاں ہونا۔ لَجنَة جمع لَجنات و لِجان
و لِجَن: بورڈ، کونسل، کمشن، کمیٹی لَجنةُ
التحقیق: تحقیقاتی کمیٹی۔ لجنة اِداریة: انتظامیہ
بورڈ، کمیٹی۔ لجنة الامتحان: ممتحنین کا بورڈ،
امتحانات کا بورڈ۔ لجنةُ الانضباط: تادیبی بورڈ،
انضباطی بورڈ۔ لجنة تنفیذیة: مجلس عاملہ
(Executive Committee)۔ لجنة
صُلحیة: ثالثی بورڈ۔ لجنة فرعیة: سب کمیٹی
(subcommittee)۔ لجنةٌ قارَّةٌ (مُستَدِیمة):
سٹینڈنگ کمیٹی، مستقل مجلس یا مجلس قائمہ۔ لجنة
المُراقبة: بورڈ آف ڈائریکٹرز (board of
directors)۔ لُجَینِی: چاندی کا، چاندی سے
متعلق۔

لجی: اِلتَجی اِلی غیر قومه: کسی اور قوم کی طرف
منسوب ہونا۔ اللَجّاة (ن): ایک پہاڑی پودا، جس
کے پھول سنہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔

لحّ: ا۔لَحَّ ـ لَحًّا و لَحَحَات العینُ: آنکھ کا کیچڑ سے
چپکنا۔ اَلَحَّ فی السؤال: سے سوال میں اصرار کرنا،
بلا توقف التجا کرنا۔ ـــ الجملُ: اونٹ کا اڑیل ہونا۔
ـــ ت المطیُّ: سواری کا تھک کر سست ہونا۔ ـــ

لَسحابُ بالمطر: بادل کا لگاتار برسنا۔ — القتبُ علی ظهر الدابّة: پالان کا جانور کی پیٹھ کو زخمی کرنا۔ تَلَحَّجَ علیه: بے بلا توقف التجا کرنا۔ اللاحّ فا۔ مکانٌ لاحٌّ و لَحِجٌ: تنگ جگہ۔ اللَّحّ (مص) کہا جاتا ہے: هو ابنُ عمی لَحًّا: وہ میرے چچا کا بیٹا ہے یعنی قرب کے لحاظ سے قریبی ہے۔ اس کا نصب حال کی وجہ سے ہے کیونکہ اس سے پہلے معرفہ ہے۔ نکرہ کے ساتھ کہا جائے گا هو ابنُ عمٍ لحٍّ اس صورت میں یہ عم کی صفت ہے۔ اس طرح مونث، تثنیہ اور جمع آتا ہے۔ المِلحَاح: بہت التجا کرنے والا، جانور کی پیٹھ زخمی کرنے والا پالان۔ سحابٌ مِلحَاحٌ: لگاتار برسنے والا بادل۔

۲۔ لَحلَحَ القومُ: اپنی جگہ پر قائم رہنا، دور چلے جانا (ضد)۔ عوام کہتے ہیں: لَحلَحَ علیه کے ساتھ رہنا، کے پاس اکثر آتے جاتے رہنا۔ تَلَحلَحَ القومُ: اپنی جگہ پر رہنا، دور چلا جانا (ضد)۔ اللَّحلَح: تنگ جگہ۔ المُلَحلَح: قوم کا بڑا، سردار۔

○ لَحَّ لَحًّا: (رشتہ داری کا) قریبی ہونا۔ أَلَحَّ: منت سماجت کرنا، التجا کرنا، سخت اصرار کے ساتھ درخواست کرنا۔ — فی: پر اصرار کرنا۔ — علی: پر ٹوٹ پڑنا، کے پیچھے پڑ جانا، کو دق کرنا، تنگ کرنا۔ علی فی/ب: پر کسی کام کو کرنے کے لئے زور دینا، پر کیلئے دباؤ ڈالنا۔ لَحِج و لاحّ: نزدیکی، قریبی، تنگ۔ لَحُوح: ضدی، ہٹ کا پکا، سرکش، ہٹیلا، منہ زور، ثابت قدم، بات کا پکا۔ مِلحَاح: ضدی، ہٹ کا پکا، سرکش، ہٹیلا، منہ زور، ثابت قدم، بات کا پکا، پیچھے پڑ جانے والا، مصر، چم چچڑ، سر پر سوار ہونے والا۔ فی الحاح یا بالحاح: تاکید سے، بہ اصرار، سنجیدگی سے، فوراً۔

لحب: لَحَبَ ـَـ لَحْبًا الطریقَ: راستہ پر چلنا، راستہ کو واضح کرنا۔ — الشیءَ: پر اثر کرنا۔ — بفلانٍ الارضَ: کو زمین پر پچھاڑنا۔ — ہ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ — اللحمَ: گوشت کو لمبائی میں کاٹنا۔ — اللحمَ عن العظمِ: گوشت ہڈی پر سے چھیلنا۔ — الرجلُ: سیدھا گزرنا یا تیز چلنا۔ کہا جاتا ہے: مرّ یَلحَبُ: وہ تیز تیز چلتا ہوا گزرا۔ — لُحُوبًا الطریقُ: راستہ کا واضح ہونا۔ — ظهرُ الفرسِ: گھوڑے کی پیٹھ کا ڈھلان میں ہموار ہونا۔ لَحِبَ ـَـ لَحَبًا الرجلُ: کو بڑھاپے کا لاغر و بلا کر دینا۔ — لحمُ زیدٍ: زید کا لاغر ہونا۔ لَحَّبَ الشیءَ: پر اثر کرنا، کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ — فلانًا: کو ذلیل کرنا۔ — ہ بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ اِلتَحَبَ الطریقَ: راستہ پر چلنا۔ اللاحِب: کھلا، واضح راستہ۔ طریقٌ لاحِبٌ: صاف واضح راستہ (ف): چڑھنے اترنے کا ذریعہ، سیڑھی۔ اللَّحَب (مص): کھلا اور واضح اور صاف راستہ۔ اللَّحِیب: اونٹنی جس کی پیٹھ پر گوشت تھوڑا ہو۔ المِلحَب: گالی دینے والا، بدزبان، کاٹنے یا چھیلنے کا اوزار، فصیح زبان۔ المَلحُوب مفع۔ رجُلٌ ملحوبٌ: لاغر آدمی۔ طریقٌ مَلحُوبٌ: کھلا صاف راستہ۔ طریقٌ مُلحَبٌ: کھلا صاف راستہ۔

○ لاحِب: کھلی، گزرنے کے قابل سڑک۔ الکٹروڈ (electrode)۔

لحت: لَحَتَ ـَـ لَحتًا العصا: لاٹھی کو چھیلنا۔ — فلانًا بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ — الرجُلَ: سے سب کچھ چھین لینا۔ کہا جاتا ہے: لَحَتُوكم كما يُلحَتُ القضيبُ: جس طرح چھڑی کی چھالی اتاری جاتی ہے اسی طرح انہوں نے تمہاری کھال اتار ڈالی۔ اللَّحت (مص): خالص، سچا۔ اللُّحَاتَة: اتاری ہوئی چھال۔

لحج: ۱۔ لَحِجَ ـَـ لَحَجًا الیه: کے پاس جانا۔ لَحِجَ ـَـ لَحَجًا الشیءُ: تنگ ہونا۔ — السیفُ و نحوُهُ: تلوار کا میان میں چست کر نہ نکلنا۔ — بالمکان: کسی جگہ میں پڑا رہنا۔ — اللَّحیُ: کج ہونا۔ صفت اللَحِج۔ لَحَّجَ علیه الخبرَ: کو غلط خبر دینا۔ لَحُوجَ علیه الامرَ: کو گڈ مڈ کر کے غلط بتانا۔ اَلحَجَ ہ الیه: کو پر مجبور کرنا۔ تَلَحَّجَ الامرَ علی فلان: کو کے سامنے غلط پیش کرنا۔ اِلتَحَجَ الیه: کی طرف مائل ہونا، کی طرف جھکنا۔ — فلانًا الیه: کو کی طرف مائل کرنا اور مجبور کرنا۔ اِستَلحَجَ البابُ: دروازہ کا بند ہونا۔ اللُّحجُ جمع اَلحَاج: اونٹ کا پالان۔ مکانٌ لَحِجٌ: تنگ جگہ۔ الملاحِجُ: تنگ جگہیں یا حالتیں۔ الملاحیج: پہاڑوں میں تنگ راستے۔ المَلحَج: جائے پناہ۔ کہا جاتا ہے: اِنّ فی الناس لَمُلحَجًا: بیشک لوگوں میں پناہ کی جگہ ہے۔ مُلَحَّج: بند۔ قُفلٌ مُلَحَّجٌ: بند قفل۔ المُلتَحَج: جائے پناہ۔

۲۔ لَحَجَ ـَـ لَحجًا ہ: کو مارنا۔ — ہ بعینه: کو نظر لگانا۔ لَحِجَ ـَـ لَحَجًا عینُهُ: آنکھ کا کیچڑ والی ہونا۔ اللَّحج (ع ا): آنکھ کا گڑھا۔ اللُّحج جمع الحاج: آنکھ کا گڑھا، گھر کا گوشہ، پہاڑ کا ابھرا ہوا حصہ، وادی کا کنارہ۔ اللَّحَج: آنکھ کا کیچڑ۔

○ لَحج: عدن کی ایک سلطنت اور شہر کا نام۔

لحد: لَحَدَ ـَـ لَحدًا المیتَ: میت کو دفن کرنا۔ — اللحدَ: بغلی قبر کھودنا۔ — للمیت: میت کے لئے بغلی قبر کھودنا۔ — السهمُ عن الهدف: تیر کا نشانہ سے چوک جانا۔ — الی فلانٍ: کی طرف جھکنا، مائل ہونا۔ — فی الدین: مذہب سے پھر جانا، ملحد ہو جانا۔ — علی فی شهادته: کا میرے خلاف گواہی میں گنہگار ہونا۔ لاحَدَ مُلاحَدَةً صاحبَهُ: ہر ایک کا دوسرے سے کجی اختیار کرنا۔ اَلحَدَ اِلحادًا المیتَ و اللحدَ و للمیتِ: مردے کو دفن کرنا، لحد کھودنا، مردے کے لئے بغلی قبر کھودنا۔ — عن الدین: دین سے پھر جانا، دین میں طعن کرنا، جھگڑا کرنا، احکام خداوندی کو ترک کرنا، ظلم کی طرف مائل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک کرنا۔ — فی الحَرَمِ: حرم کی بے حرمتی کرنا۔ — السهمُ الهدفَ: تیر کا نشانہ کے ایک پہلو میں لگنا۔ — بہ: کو بدنام کرنا، پر عیب لگانا۔ اِلتَحَدَ عن الدین: دین سے پھر جانا۔ — الی کذا: کی طرف مائل ہونا۔ — الی فلان: کی پناہ لینا۔ اللاحِد (فا): گورکن۔ قبرٌ لاحِدٌ: بغلی قبر۔ اللَّحد و اللُّحد ج اَلحاد و لُحُود: بغلی قبر، قبر۔ الاِلحاد: اَلحَدَ کا مصدر، کفر۔ اللَّحُود: مائل، جھکنے والا۔ المُلحِد (فا) جمع مَلاحِدَة و مُلحِدُون: کافر۔ المَلاحِدَة: دہریہ، نیچری (کفار کا ایک فرقہ جو دہریے اور نیچری کہلاتے ہیں)۔ المُلحَد: بغلی قبر، قبر۔ المَلحُود: بغلی قبر، قبر۔ قبرٌ مَلحُودٌ: بغلی قبر۔ المُلحَادَة: دین میں بہت طعن کرنے والا۔ المُلتَحَد: جائے پناہ۔ لَحّاد: گورکن۔

○ اِلحادی: کفر، بے دینی، دہریت سے متعلق۔

لحز: ۱۔ لَحِزَ ـَـ لَحَزًا ہ: سے اصرار کرنا، پر زور دینا۔ لَحِزَ ـَـ لَحَزًا: بخیل ہونا۔ صفت لَحِزٌ و لَحزٌ۔ تَلَحَّزَ: بخیل ہونا۔ تلاحَزَ القومُ: گفتگو کرنے میں مقابلہ کرنا۔ — الصبیانَ: بچوں کا آپس میں اشعار کا تبادلہ کرنا۔ المَلحَز جمع مَلاحِز: تنگ جگہ، الجهاز، پیچ مخمصہ، جنجال۔ کہا جاتا ہے: وقعوا فی الملاحِزِ: وہ مخمصوں میں پڑ گئے۔ المُتَلاحِز من الشجرِ: ایک دوسرے میں گھسے ہوئے درخت۔

۲۔ تَلَحَّزَ: ترش چیز کے لئے منہ میں پانی بھر آنا۔

۳۔ تَلَحَّزَ: لڑائی یا سفر کے لئے کپڑے سمیٹنا۔

۴۔ تَلَحَّزَ عنه: سے پیچھے رہ جانا۔

لحس: ۱۔ لَحَسَ ـَـ لَحسًا الدودُ الصوفَ: اون کو کیڑا لگنا۔ — الجرادُ الخضِرَ: ٹڈی کا سبزی کو چاٹ جانا۔ — لَحسًا و لَحسَةً و لُحسَةً و مَلحَسًا القصعةَ: پیالے کو زبان یا انگلیوں سے

جاٹنا۔اس سے ضرب المثل ہے: أَسْرَعُ من لحس الـكـلـبِ انفهُ: کتے کے اپنی ناک چاٹنے سے بھی زیادہ تیز رفتار۔ لَـحَّـسَ ہُ الشیءَ: کو کوئی چیز چٹانا۔اَلْحَسَتِ الارضُ: زمین کا شروع سبزہ نکالنا۔ ـ المَاشِيَةَ: مویشی کو تھوڑا سا چرانا۔ اِلْتَحَسَ منه حـقـهُ: سے اپنا حق لینا۔ سنةٌ لاحِسةٌ: سخت سال۔کہا جاتا ہے: أَخَذَتْهُم لَوَاحِسُ: انہیں سخت سالوں نے آلیا کہ تمام سبزہ چاٹ ڈالا۔ لاحِسةُ السُّكَّرِ (ح): دیمک۔ اللاحُوس: منحوس،حریص، جو ہر چیز جسے حاصل کر سکے لے لے۔ الـلَـحْـس: سبزہ جس کے نمودار ہونے پر اونٹ بکریاں وغیرہ اسے نہ کھا سکنے پر چاٹنے لگیں۔کہا جاتا ہے: مالكَ عندي لُـحْـسَـةٌ: میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں۔ الـلَحَّاس: بہت چاٹنے والا۔الـلَحَّاسَة: لحّاس کا مؤنث۔(ح): شیرنی۔ اللحُوس: مکھی کی طرح مٹھاس کا پیچھا کرنے والا،حریص۔ الـلَـحُـوسُ و الـمُـلْحِس: لالچی جو ہر چیز جسے حاصل کر سکتا ہو لے لے۔المِلْحَس: لالچی، بہادر۔

۲۔اللُّحْسُم جمع لَحَاسِم: وادی کا تنگ نالہ۔

○ لَـحِـسَ ـلَـحْـسًا ہ: کو چٹ کر جانا(بالخصوص کیڑے کا اون کو)، کو کھا جانا، کو بے تحاشا کھانا۔ لَحِسَ ـلحساً و لَحْسَةً و لُحْسَةً و مَلْحَسًا ہ: کو چاٹنا، چاٹ ڈالنا، کو چپڑ چپڑ پی جانا، کا سڑ پا لگانا،کو سڑ کنا۔مَلْحوس: چاٹا ہوا، فاتر العقل۔

لحص: الـمَحَص -لَـحْـصًا خبرَ فلان: کی خبر خوب اچھی طرح معلوم کرنا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرنا۔ لَـحَّصَ خبرَهُ: کی خبر خوب اچھی طرح معلوم کرنا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرنا۔اِلْتَـحَـصَ البيضَةَ و نحوهَا: انڈے وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا پینا۔

ملَحَصَ -لَحْصًا في الامر: میں لگ جانا۔لَحَّصَ في كذا: کو مشکل میں ڈالنا، مصیبت میں مبتلا کرنا، سخت کرنا، مضبوط کرنا۔ ـ ہُ عن كذا: کو سے روکنا۔ ـ الكتاب: کو پختہ کرنا۔اِلْتَحَصَ الامرُ: سخت ہونا۔ ـ ہُ عن كذا: کو سے روکنا۔ ـ ہُ اِلَی كذا: کو پر مجبور کرنا۔ ـ ہُ الشيءُ: کے ساتھ لگا رہنا۔ ـ تِ الإبرةُ: سوئی کا ناکہ بند ہونا۔ ـ تْ عينهُ: آنکھ کا کیچڑ سے چپک جانا۔ اللَّحَص: اوپر کے پپوٹے کی سلوٹ۔ لحاص: سختی،مصیبت،پریشانی۔اللَّحِيص: تنگ۔المَلْحَص: جائے پناہ۔

۔اللَحَصَان: دوڑ،تیز رفتاری، سرعت۔

لحط: لَحَطَ -لَحْطًا ہُ: پر پانی چھڑکنا،کی آرائش کرنا۔

اِلْتَحَطَ الرجلُ: غضبناک ہونا۔

لحظ: الـلَحَظَ -لَـحْظًا و لَحَظَانًا فلانًا و اِلَی فلان بالعين: کو گوشہ چشم سے دیکھنا، پر نظر رکھنا۔ لَحْظًا و لَـحَّظَ تَلْحِيظًا البعيرَ: اونٹ کے داغ لگانا۔ لاحَـظَ لِـحـاظًـا و مُلاحَظَةً ہُ: پر نظر رکھنا، ایک دوسرے کو گوشہ چشم سے دیکھنا۔تَـلَـحَّـظَ الشيءَ: تنگ ہونا۔اللاحِظَة جمع لَوَاحِظ: لاحظ کا مؤنث، آنکھ۔اللحْظ (مص) جمع لِحَاظِ و أَلحاظ: آنکھ کا اندرونی حصہ۔ اللَّحْظَة جمع لَحَظات: لحظ کا اسم مرہ۔کہا جاتا ہے: جلست عنده لحظةً: یعنی میں اس کے پاس آنکھ کھلنے اور بند ہونے یا پلک جھپکنے جتنی دیر بیٹھا۔ایک لحہ بیٹھا۔ الـلَـحَـاظ و اللِحاظ جمع لُـحُظ: کنپٹی کے رخ میں آنکھ کا گوشہ، آنکھ کے نیچے کا نشان۔الـلَّـحَّـاظ: سخت دیکھنے والا۔الـلَـحُـوظ: تنگ۔الـتَّـلْـحِـيظ (مص): آنکھ کے نیچے کا داغ۔ المَلْحَظ جمع مَلاحِظ: دیکھنا، دیکھنے کی جگہ۔

۲۔تَلاحَظَتِ الأَشياءُ: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔کہا جاتا ہے احوالهم متشاكلة متلاحظة: ان کے حالات ایک دوسرے جیسے ہیں۔اللَحِيظ: شبیہ، نظیر۔

۳۔اللِحاظ: گھر کا صحن۔لِحاظُ السهمِ: تیر کے اوپر کے پر۔لِحاظُ الريشة: نیچے کے سفید پر۔

○ لَحَظَ -لَحْظًا و لَحَظانًا ہ/ ہ: کو بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کو دیکھنا، پر نظر ڈالنا، (حیرانی یا شک کی نظر سے) دیکھنا، کی طرف دیکھنا۔ ـ ہ/ان: کو دیکھنا/ دیکھنا کہ۔ـ لاحَظَ ہ/ہ: کو بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کو دیکھنا، پر نظر ڈالنا، کو (حیرانی یا شک کی نظر سے دیکھنا)، کی طرف دیکھنا۔ ـ ہ: کو دیکھنا، کو دیکھ لینا۔ ـ ہ/ان: کو دیکھنا، دیکھنا کہ...... کے بارے میں اظہار خیال کرنا، کہنا کہ، رائے زنی کرنا کہ ـ ہ: کو سمجھنا، خیال کرنا، کو یاد رکھنا، کو ذہن میں رکھنا، پر توجہ کرنا، کی نگرانی کرنا۔لاحَظَ عليه شيئًا: میں کچھ دیکھنا۔ ممـا يُلاحَظُ اَنَّ: دیکھا جائے گا کہ؟ ظاہر ہے کہ، صاف طور پر۔لَحْظ جمع اَلْحاظ: سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر، نظر، نگاہ۔لَحْظَة جمع لَحَظات: سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر، جھلک، لحہ، آن، گھڑی۔ لحظہ اللحظة الراهنة: موجودہ لحہ، اس وقت۔في لَحْظَة: ایک لحہ میں، فوراً، فی الفور۔في هذه اللحظة: اس وقت۔لَحَظاتٍ: چند لمحوں کے لئے۔لَحْظَتَئِذٍ: اُس لحہ۔مُلاحَظة جمع ملاحظات: دیکھنا، ادراک، مشاہدہ، اظہار خیال، تبصرہ، کہنا، رائے زنی، اتفاقی بیان، شرح (کی) پابندی، پر عمل، توجہ، نگرانی، انتظام، کنٹرول۔ذو ملاحظة: قابل ذکر، قابل توجہ، مشہور، نمایاں، ممتاز۔لاحظة جمع لَوَاحِظ: آنکھ، سرسری نظر، نگاہ۔مَلْحُوظ: مشہور، قابل ذکر، قابل لحاظ، غیر معمولی۔مَلْحُوظة جمع مَلْحُوظات: مشاہدہ، اظہار خیال، تبصرہ، ریمارک، شرح، نشان، علامت۔ مُلاحِظ: ڈائریکٹر، سپرنٹنڈنٹ، اوورسیر، سپروائزر، فورمین۔ـو المُلاحَظ اَنَّ: ظاہر ہے کہ، صاف طور پر۔

لحف: الـلَحَفَ -لَحْفًا ہُ: کو لحاف وغیرہ سے ڈھکنا۔ ـ ہُ الثوبَ: کو کپڑے پہنانا۔ـ النارَ الحطبَ: لکڑیوں کو آگ پر ڈالنا۔کہا جاتا ہے لَحَفَنِي فضلَ لحافِهِ: اس نے مجھ کو زائد عطیہ دیا۔لَحَفَ القمرُ: چاند کا آخری راتوں میں ہونا۔ لَحَّفَ إزارَهُ: چادر کو تکبر سے زمین پر گھسیٹنا۔لاحَفَ ہُ: کے ساتھ رہنا۔ کہا جاتا ہے فلانٌ يضاجع السيفَ و يلاحف الخوفَ: فلاں شخص تلوار کے ساتھ لڑتا ہے اور خوف کے ساتھ رہتا ہے۔لاحفه: کی مدد کرنا۔ اَلْحَفَ الرجلُ: تکبر سے چادر زمین پر گھسیٹنا۔ ـ السائلُ: اصرار سے مانگنا۔ ـ شارِبَهُ: مونچھ کو بہت نیچے سے کاٹنا۔ ـ الظفرَ: ناخن جڑ سے اکھیڑنا۔ ـ ہُ الثوبَ: کو کپڑے پہنانا، کپڑوں کو اس کا لحاف بنانا۔ ـــــ الرجلَ: کے لئے لحاف خریدنا۔ ـــ ضيفَهُ: سخت سردی میں اپنا بستر اور لحاف مہمان کو دینا۔تَـلَـحَّـفَ و التَحَفَ: اپنے لئے لحاف بنانا۔ ـــ باللحاف وغيرہ: لحاف وغیرہ اوڑھنا۔اللِحْفَةُ: لحف کا اسم نوع۔ لیٹنے کا انداز، لیٹے ہوئے کی حالت۔اللِحاف جمع لُحُف و المِلْحَف جمع مَلاحِف: اوڑھنے کا کپڑا، دوسرے لباس پر پہنا ہوا لباس۔المِلْحَف جمع مَلاحِف: اوڑھنے کا کپڑا، دوسرے لباس پر پہنا ہوا لباس، لحاف پر پہنائی ہوئی چادر جو لحاف کو میلا ہونے سے بچائے اور سردی کو روکنے میں زیادہ طاقت ور ہو۔

۲۔لَحَفَ -لَحْفًا ہُ: کو مکا مارنا۔ـــ ہُ سهمًا: کو تیر مارنا۔اَلْحَفَ به: کو نقصان پہنچانا، کو زخمی کرنا۔

۳۔لَحَفَ -لَحْفًا الشيءَ: کو چاٹنا۔ـــ عنه اللحمَ: سے گوشت اتارنا۔لُحِفَ لَحْفَةً الرجلُ في مالِهِ: کے مال میں سے کچھ جاتا رہنا۔

۴۔اَلْحَفَ الرجلُ: دامن کوہ میں چلنا۔اللحف: دامن کوہ۔

○ لَحَفَ -لَحْفًا ہُ: کو ڈھکنا، کو کمبل وغیرہ میں لپیٹنا۔ اَلْحَفَ ہُ: کو ڈھکنا، کو کمبل وغیرہ میں لپیٹنا۔اَلْحَفَ:

فوراً درخواست کرنا یا طلب کرنا۔ تَـلَـحَّفَ و اِلْتَحَفَ ب: اپنے آپ کو میں لپیٹنا۔ اپنے آپ کو سے ڈھکنا۔

لِحَف: دامن کو ہ لِحاف جمع لُحُف و اَلْحِفة: چادر، کھیس، کمبل، بستر کی چادر، پلنگ پوش، لحاف، رضائی، گرم گلوبند، شال۔ مِـلْحَف و مِـلْحَفَة جمع مـلاحف: چادر، شال، کھیس، کمبل۔ اِلْـحـاف: (درخواست دہندہ کا) اصرار۔ مُلْتَحِف ب: میں لپٹا ہوا، سے ڈھکا ہوا۔

لحق: ا۔لَحِقَ ـلَحْقًا و لَحَاقًا فلانًا و بفلان: سے آملنا، کے پاس آپہنچنا۔ ــــ اِلى قومِ كذا: سے وابستہ رہنا۔ لُحُوقًا الفرسُ: گھوڑے کا لاغر ہونا۔ ــــ الثمنُ فلانًا: پر قیمت کا لازمی ہونا واجب ہونا۔ لاحَقَ هُ: کا پیچھا کرنا۔ اَلْحَقَ هُ: سے آملنا، کے پاس آپہنچنا۔ ــــ هُ بفلان: کو سے ملا دینا۔ تلاحَقَ: ایک دوسرے کے پیچھے جانا۔ ــــتِ المطايا: بعض سواری کا دوسری سواری سے آملنا۔ اِلْتَحَق بـه: سے آملنا، سے وابستہ ہونا۔ اِسْتَلْحَقَ هُ: کو اپنے خاندان کی طرف منسوب کرنا۔ اللاحِق (فا): دوسری بار کا پھل۔ ابو لاحِق (ح): باز۔ اللاحِقَة جمع لَوَاحِق: لاحق کا مؤنث: دوسری بار کا پھل۔ اللَحَق: لوگ جو دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد ان سے آملیں۔......جمع اَلْحاق: پہلی چیز کے ساتھ ملنے والی چیز، دوسری بار کا پھل، زائد چیز، ضمیمہ۔ لَحَقُ الغنم: بھیڑ بکریوں کے بچے جو ان سے آملنے کو ہوں۔ اللِحاق: کمان کا غلاف۔ اللُوَيْحِق (ح): ایک شکاری پرندہ۔ المِلْحاق: تیز رفتار اونٹنی جس سے اونٹ آگے نہ بڑھ پائیں، تیز تیر پھینکنے والی کمان۔ المُلْحَق: خاندان سے ملایا ہوا لے پالک، زائد چیز، تتمہ، ضمیمہ، انڈکس۔

۲۔اِسْتَلْحَقَ الوجُلَ: وادی کی کھلی زمین میں کھیتی کرنا۔ الاَلْحاق (مفرد اللَحَق): وادی کی وہ جگہیں جہاں سے پانی کا بہاؤ بند کر کے بوائی کی جائے، دریا برآمد زمین، (alluvial soil)۔

◌ لَحِقَ القِطار او بالقطار: ٹرین پکڑنا......ب: کو چھونا، سے چمٹنا، کے ساتھ وابستہ ہونا، کے پاس رہنا، کے ساتھ شامل ہو جانا، کے ساتھ چلے آنا، کا جانشیں ہونا، کے بعد آنا، سے متحد ہونا، کے پاس جانا۔ ــــ بمدرسة: سکول میں داخلہ لینا۔ ......بخدمتهِ: کی ملازمت اختیار کرنا۔لحق ہ: کو مغلوب کرنا، پر نازل ہونا، کے دل پر اثر کرنا، کو تکلیف میں ڈالنا (بیماری، خوف، نقصان وغیرہ کا)، کے لئے لازمی ہونا، پر واجب ہونا، پر فرض ہونا، کے لئے ضروری ہونا۔ لاحَقَ ہ: کا پیچھا کرنا، کا تعاقب کرنا۔ اَلْحَقَ ہ ب: کو سے منسلک کرنا، کو سے جوڑنا، کو میں شامل کرنا، کو میں ملفوف کرنا، کو سے متعلق قرار دینا۔ ــــ ہ ب: کو کے ذریعہ بڑھانا، زیادہ کرنا۔ ــــ ہ ب: کو کسی تنظیم میں داخل کرنا، کو کسی تنظیم میں رکن کے طور پر داخل کرنا، کو میں بھرتی کرنا، کا میں نام درج کرنا۔ ــــ ب ہ: کو (زخم وغیرہ لگانا)، کو (سزا) دینا، کو (تکلیف/نقصان) پہنچانا۔ اِلْتَحِقَ ب: (کسی تنظیم، سوسائٹی وغیرہ میں) داخل ہونا، کا رکن ہونا، ملازمت اختیار کرنا۔ تلاحَقَ: پیچھے پیچھے لگا رہنا، ایک دوسرے کا تعاقب کرنا، مسلسل سلسلہ میں مکمل مل جانا، غیر محسوس طور پر ایک دوسرے میں منتقل ہونا۔ اِلْتَحَق ب: کے پاس پہنچنا، کو جا لینا، میں شامل ہونا، کے ساتھ چلنا۔ ب: کسی ملازمت کو اختیار کرنا، سکول یونیورسٹی میں داخلہ لینا.....فوج، تنظیم وغیرہ میں شامل ہو جانا، کارکن بن جانا۔ ــــ ب: کسی شعبہ میں داخل ہو جانا، سے وابستہ ہو جانا، سے ملحق ہو جانا۔ اِلْتَحَق: لگاؤ ہونا، جانثار، وفادار ہونا۔ التحق بالحكومة: حکومت کی ملازمت کر لینا۔ اِسْتَلْحَق ہ: کو شامل کرنا۔ لَحَق جمع اَلْحاق: سیلاب کی چھوڑی ہوئی قابل کاشت زمین، دریا برآمد زمین۔سابقاً...... لاحقاً: پہلے......بعد میں، بعد ازاں۔ اِسْتِلْحاق: اِلحاق (annexation)، ولدیت کا اقرار، اعتراف avowal of paternity۔ لاحِق: آملنے والا، آپہنچنے والا، بعد کا، اگلا، ذیل کا، حسب ذیل، اضافی، بڑھایا ہوا، شامل، کیا ہوا، ملحق شدہ، جوڑا ہوا، منسلکہ، چسپاں شدہ، لگایا ہوا، منضم شدہ، ٹانکا ہوا۔ لاحِقَة ج لَواحِق: تعلیق، ذیل، ملحقات، متعلقات، ساز و سامان، متعلقہ چیزیں، زوائد، ماتحت علاقے۔ مُلْحَق ب: کے ساتھ شامل، منسلک، منضم، میں ملفوف۔ مُلْحَق: متصل، ملحق، ملا ہوا، ملحقہ، ہمسایہ (ہمسائیگی میں)؛ حاشیہ میں لکھا یا چھپا ہوا، حاشیہ پر، متعلق، مناسب، موزوں، مشتمل، ہمراہ، ساتھ، متحد، ضم شدہ، ضمیمہ، تکملہ جمع مُلْحَقات و ملاحق: ذیل، ملحقات، تتمہ، اضافہ، بیشی، مکرر، عبارتِ مابعد، عبارتِ مزید، نوشتہ مابعد، ضمیمہ (اخبار، رسالہ یا کتاب کا) زائد کاغذ کا تختہ، ملفوف، تعلیق، ذیلی، ملحقات، آویزاں، آگے نکلا ہوا یا بڑھایا یا جھکا ہوا، لاکٹ، تعویذ، ٹیگ (tag)، لیبل، چٹ، پیچھے لگی ہوئی گاڑی، بوسیٹ گاڑی، ذیلی مکان، مکان کا چھوٹا ملحقہ حصہ (annexe)، ذیلی عمارت، عمارت کا بازو پہلو، نکلا ہوا حصہ، عمارت میں کیا گیا اضافہ۔ جمع مُلْحَقون: اتاشی (attache)، معاون، مددگار (assistant) جمع مُلْحَقات: الحاقی صوبے، ماتحت علاقے۔ ملحقٌ تجاريٌّ: تجارتی اتاشی (Commerical attache)۔ ملحق بحري: بحری اتاشی (naval attache)۔ ملحق جوّي: ہوائی اتاشی (air attache)۔ ملحق عسكري يا ملحق حربي: ملٹری اتاشی۔ ملحق صُحُفِي: پریس اتاشی۔ ملحق فخري: رسمی اتاشی (titular attache)۔ مُتَلاحِق: لگاتار، مسلسل، پے در پے، متواتر۔ متلاحقُ الحركة: مسلسل حرکت میں۔

لحك: لَحَكَ ـلَحْكًا الشيء بالشيء: چیز کو چیز سے چمٹانا۔ ــــ الصبيَّ: بچے کے منہ میں دوا ٹپکانا۔ لَحِكَ لَحْكًا العسلَ: شہد چاٹنا۔ لاحَكَ الشيءَ بالشيء: چیز کو چیز سے چمٹانا۔ لُوحِكَ ت فقارُ ظهره: پیٹھ کے منکوں کا ایک دوسرے میں پھنسا ہوا ہونا۔ تلاحَكَ الشيء بالشيء: چیز کو چیز سے چمٹانا۔ ــــ الشيءُ...... مخلوط ہونا۔ ــــ البنيانُ: عمارت کا مرمت شدہ ہونا۔ اللُحَكة واللُحَكا (ح): ریت میں رہنے والی ایک قسم کی چھپکلی۔ المَلاحِك: تنگیاں، تنگ جگہیں، تنگ درے۔

لحم: ا۔لَحَمَ ـلَحْمًا الامرَ: کو مضبوط و مستحکم کرنا۔ الصائغُ الفِضّةَ: سنار کا چاندی کو ٹانکا لگانا۔ لَحِمَ لَحْمًا بالمكان: کسی جگہ میں تنگ کر رہنا۔ لاحَمَ الحَبْلَ: رسی مضبوط بٹنا۔ الشيء بالشيء: چیز کو چیز کے ساتھ ملانا، جوڑنا۔ بين الشيئين: دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا۔ اَلْحَمَ الشيءَ: کو درست کرنا۔ ــــ الثوبَ: کپڑا بُننا۔ اَلْحِم ما اَسْدَيْتَ: جسے تو نے شروع کیا ہے اسے مکمل کر۔ ــــ الشعرَ: شعر نظم کرنا۔ ......فلانًا الخطبُ: سے معاملہ کا لگا رہنا، چمٹنا۔ ــــ هُ بصرَهُ: کو تیز نظری سے دیکھنا۔ ــــ الرجُلَ: کو مُمکین کرنا۔ ــــ الشيءَ بالشيء: چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا۔ ــــ فلانًا الارضَ: کو زمین پر گرا دینا، پچھاڑ دینا۔ ــــ بالمكان: کسی جگہ اقامت گزیں ہونا۔ ــــت الدابّةُ: جانور کا چلتے چلتے رک جانا۔ ــــ هُ القتالُ: لڑائی سے چھٹکارا نہ پانا۔ تلاحَمَ الشيءُ: جڑ جانا۔ ــــ القومُ: آپس میں قتال کرنا۔ ــــتِ الشجّةُ: زخم پر انگور آنا۔ اِلْتَحَمَ الشيءُ: جڑ جانا۔ ــــتِ

الحروب بینهم: کے درمیان گھمسان کی جنگ ہونا۔ ـــ الجرحُ للبرء: زخم کا انگور لانا۔ استلحم الزرعُ: کھیتی کا گنجان ہونا۔ ـــ الخطبُ فلانا: کو معاملہ کا مشغول کرنا۔ استُلحِمَ الرجُلُ: لڑائی میں پھنس جانا، چھٹکارانہ پانا۔ اللُّحمَة جمع لُحَم: قرابت، کپڑے کا بانا۔ لُحمةُ الثوب: کپڑے کا بانا۔ اللِحام: دراڑ کو جوڑنے والی چیز۔ المُلحَم: قوم سے جڑا ہوا، قیدی، ایک قسم کا کپڑا جس کا تانا سفید ابریشم کا ہوتا ہے اور بانا ریشم کا نہیں ہوتا۔ المَلحَمة جمع مَلاحِم: گھمسان کی جنگ کا موقعہ، قتل عام، خون ریز جنگ، رجزیہ شاعری سے کنایہ، جیسے ہومر کی مشہور رزمیہ نظم (Iliad)۔ المُلاحَم من الحبال: مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ کہا جاتا ہے: شَجَّةٌ مُتَلاحِمَةٌ: بھرا ہوا زخم۔

۲۔ لَحَمَ ـ لَحْمًا القصّابُ العظمَ: قصائی کا ہڈی سے گوشت اتارنا۔ ـــ ہٗ: کو گوشت کھلانا، کو نقصان پہنچانا، کو تکلیف دینا۔ لَحِمَ ـ لَحْمًا الصقرُ و نحوهُ: شکرہ، شاہین، باز وغیرہ کا گوشت، کی خواہش رکھنا...... لَحمًا و لَحُمَ ـ لَحامَةً: بہت گوشت والا جسم رکھنا، لحیم ہونا، گوشت کا بہت خواہش مند ہونا۔ لُحِمَ لَحْمًا: قتل کیا جانا صفت لَحِیم: اَلحَمَ الرجُلُ: کے گھر میں بہت گوشت ہونا۔ ـــ القومَ: کو گوشت کھلانا۔ ـــ الزرع: کھیتی میں دانہ پڑنا۔ ـــ ہٗ عِرضَ فلان: کو گالی دینے کا موقعہ دینا۔ ـــ بین القوم شرًّا: قوم کے درمیان فساد ڈلوانا۔ اُلحِمَ الرجُلُ: مرنا۔ اللاحِم: گوشت کھلانے والا، گوشت رکھنے والا۔ بازٌ لاحِمٌ: گوشت کھانے یا اس کی خواہش رکھنے والا باز۔ اللَحْم و اللحَم جمع لِحام و لُحوم و لِحمان و لُحمان و اَلحُم من جسم الحیوان: گوشت۔ کہا جاتا ہے: اَکَلَ لَحْمِی: ورَتَعَ فی لحمی: اس نے میری غیبت کی۔ لحمُ کلِّ شیءٍ: ہر چیز کا گودا۔ لحمُ البحر (ح): کیڑا۔ اللَحِم: جسم میں بہت گوشت والا، گوشت کی بہت اشتہار رکھنے والا۔ (ح): شیر۔ بازٌ لَحِمٌ: گوشت خور یا گوشت کی اشتہاء رکھنے والا باز۔ اللُحمة جمع لُحَم: شکار میں سے باز کا حصہ۔ اللَحمةُ: گوشت کا ٹکڑا۔ اللحّام: گوشت بیچنے والا۔ اللَحِیم: جسم میں بہت گوشت والا، مقتول۔ کہا جاتا ہے: ھذا لَحِیمُ ذاك: یہ اس کے مطابق ہے۔ المُلحِم (فا): گوشت کھلانے والا، بہت گوشت رکھنے والا۔ المُلحَم (مفع): جسے گوشت کھلایا جاتا ہو۔ المَلحَمة جمع مَلاحِم: بوچڑ خانہ، مذبح۔ المُستَلحِم (ح): شیر۔

۳۔ اِستَلحَمَ الطریقُ: راستہ کا کشادہ ہونا۔ ـــ الطریقَ او الطریدَةَ: راستہ پر چلنا، شکار کا پیچھا کرنا۔

○ لَحَمَ ـ لَحْمًا ہ: کی مرمت کرنا، کو پیوند لگانا، ویلڈ کرنا، ٹانکا لگانا۔ لَحِمَ: پھنس جانا۔ لَحَّمَ ہ: کو ٹانکا لگانا۔ تَلاحَمَ: لڑائی میں شامل ہونا، باہمی قتال میں مشغول ہونا، متحد رہنا، ایک دوسرے کی تائید کرنا، متحد یا مربوط رہنا، متحد ہونا۔ اِلتَحَمَ ب: سے وابستہ رہنا، پر جمار رہنا، کے ساتھ فوری رابطہ میں ہونا، کے ساتھ لگا رہنا، کے ساتھ بالکل ٹھیک ہونا۔ اِلتحَم: دو بدو لڑنا (جنگ وغیرہ میں)، متحد رہنا، متحد ہونا، مربوط ہونا، (زخم کا) بند ہونا، بھر جانا، مندمل ہونا۔ بلحمہٖ و شحمہٖ: اپنی حقیقی انسانی شکل میں۔ لَحْمًا و دَمًا: قدیم دیرینہ، پورا پکا، کٹر بانا، مزمن۔ لَحمة و لُحمہ جمع لُحَم: فیصلہ کن عنصر، اصل مقصود یا مدعا۔ لِحام جمع لحامات: ٹانکا لگانا، ویلڈنگ، ٹانکا، ٹانکا لگا جوڑ یا شگاف...... لَحّام: قصائی، ٹانکا لگانے والا، ویلڈر (welder)۔ لَحامَة: فربہی۔ لَحِیم: موٹا، فربہ۔ اِلتحام: قریبی اتحاد، اتصال، چسپیدگی، جوڑ، میل، ساتھ، تعلق، رابطہ، پیوند، رشتہ، پیوستگی، ربط، وابستگی، مڈبھیڑ، ہاتھا پائی، گتھم گتھا ہونا، گھمسان کی لڑائی، جدوجہد جنگ، لڑائی، محاربہ، مجادلہ۔ مُلتحَمة: جڑا ہوا۔

لحن: ۱۔ لَحَنَ ـ لَحْنًا و لَحَنًا و لُحُونًا و لَحانَةً و لَحانِیَةً فی کلامہ او فی القراءَةِ: اعراب میں غلطی کرنا صفت لاحِن و لحّان و لَحّانَة۔ ـــ لَحْنًا لفلانٍ: کسی سے کنایہ میں بات کرنا کہ دوسرا نہ سمجھ سکے۔ صفت لاحِن: اس معنی میں، اسے لحّان نہیں کہا جائے گا...... ـــ الیہ: کی طرف مائل ہونا، کے پاس جانا۔ لَحَّنَ ہٗ: کو غلطی کرنے کا الزام دینا۔ ـــ فی القراءَةِ: قرأت میں ترنم کرنا، سر سے پڑھنا۔ ـــ الأناشِیدَ (مو): گیتوں کے سر بنانا۔ اللَحْن (مص) فی الکلام جمع الحان و لُحون: اعراب اور ساخت میں غلطی جیسے منصوب کا رفع اور مضموم کا فتحہ...... ـــ من الاصوات: آواز، سر، لہجہ، طرز تکلم۔ صناعةُ الالحان: موسیقی۔ لحن الکلام: الفاظ کا معنی و کنایہ۔ اللَحَن: زبان، لغت۔ اللُحَنة: وہ جس کی لوگ غلطیاں پکڑیں۔ اللُحَنَة: بہت غلط تلفظ کرنے والا، لوگوں کی غلطی بہت پکڑنے والا۔ الالحَن: سریلی آواز سے گانے یا پڑھنے والا۔ المُلَحِّن: نغمہ ساز، نغمہ گر۔

۲۔ لَحَنَ ـ لَحْنًا قولَهٗ: کی بات سمجھنا۔ لَحِنَ ـ لَحَنًا الرجُلُ: دانا و ذہین ہونا، دلیل جان لینا۔ ـــ الکلامَ: کلام سمجھنا۔ لاحَنَ القومَ: پر کوئی چیز دہرانا۔ اَلحَنَ فلانا القولَ فلَحِنَهٗ: کو بات سمجھانا اور اس کا اسے سمجھ لینا۔ اللاحِن (فا): نتائج کلام کو جاننے والا۔ اللَحَن: ذہانت۔ اللَحِن: ذہین۔ الالحَن: زیادہ سمجھدار

○ لَحَنَ ـ لَحْنًا و لُحونا و لَحانَةً: قواعد کے خلاف عربی بولنا (جس میں سوقیانہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں)۔ لَحِنَ ـ لَحَنًا: ذہین ہونا، سمجھدار ہونا۔ لَحَّنَ: گانا، گنگنانا، نغمہ سرا ہونا، لحن سے پڑھنا، گا کر ادا کرنا، نغمہ نکالنا، گانے لگنا، راگ بنانا، نغمہ گری کرنا۔ لَحن جمع الحان و لُحون: لے، دھن، طرز، سر، قواعد (زبان) کی غلطی، محاورے کی غلطی سوقیانہ لفظ یا محاورہ۔ لَحِن: ذہین، سمجھدار، عقلمند، زیرک، ہوشمند۔ تَلحِین جمع تلاحِین: نغمہ نگاری، نغمہ گری، موسیقی کی ترتیب۔ مَلحُون: غلط، قواعد صرف و نحو کے خلاف (زبان): عام بول چال میں شاعری۔ مُلَحِّن: نغمہ ساز، نغمہ گر۔ تَلحِینِی: گانے کے قابل۔

لحو: ۱۔ لَحَا یَلحُو لَحْوًا الشَجرةَ: درخت کا چھلکا اُتارنا۔ ـــ ہٗ: کو گالی دینا۔ اِلتَحَی اِلتِحاءً الشجرةَ: درخت کا چھلکا اُتارنا۔ المِلحَی: لکڑی چھیلنے کا اوزار۔

۲۔ لَحوَجَ لَحوَجَةً علیہ الخبرَ: پر خبر کو خلط ملط کرنا، اور ضمیر کے خلاف ظاہر کرنا۔

○ لَحَا ـ لَحْوًا و لَحَی ـ لَحْیًاہ: کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا، ہتک کرنا، اہانت کرنا، کو ذلیل کرنا، کو گالی دینا۔ تَلاحَی: ایک دوسرے پر گالیوں اور دشنام طرازیوں کا انبار لگانا، ایک دوسرے کو گالی دینا۔ اِلتحی: داڑھی رکھنا۔ لَحْو و لَحْی: بے عزتی، توہین، ہتک، اہانت، تذلیل، گالی، گالی گلوچ، گالیوں کی بوچھاڑ، سب و شتم۔ لَحْی: دہرا۔ لَحْیان جمع الحٍ و لُحِیّ: جبڑے کی ہڈی۔ لِحیَة جمع لِحًی و لُحًی: داڑھی، گل مچھ، پوری داڑھی۔ اَطلَقَ لِحیَتَهٗ: داڑھی رکھنا۔ لَحیَة: (بحر قلزم پر، شمالی مغربی یمن کا ایک) شہر۔ الحَی: لمبی داڑھی والا۔ مُلتَحٍ: داڑھی والا۔ مُلتحٍ بِلِحیَةٍ سوداء: کالی داڑھی والا۔

لحی: لَحَی یَلحَی لَحْیًا الشجرةَ: درخت کا چھلکا اتارنا، درخت کو چھیلنا...... فُلانًا: کو ملامت کرنا، گالی دینا، پر عیب لگانا۔ صفت فاعلی: لاحٍ صفت

مفعولی: مَلْحِيّ۔ کہا جاتا ہے لحا اللّٰہُ فلانًا: اللہ تعالیٰ فلاں پر لعنت کرے۔ لَاحَی لِحاءً و مُلاحَاۃَ الرجُلَ: سے جھگڑنا، ضرب المثل ہے: من لاحاك فقد عاداك: جو تجھ سے جھگڑے وہ تجھے دشمن سمجھتا ہے ـــ فلانًا: کو دور کرنا منع کرنا، ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ اَلْحَی اِلحاءً: قابل ملامت کام کرنا ـــ العودُ: لکڑی کا چھلکا اتارنے کا وقت آنا۔ تَلاحَی تلاحِیًا القوم: ایک دوسرے کو گالی دینا، آپس میں جھگڑنا لعنت ملامت کرنا، آپس میں بغض وحسد رکھنا۔ اِلتحی التحاءً العُودَ: لکڑی چھیلنا۔ اللحاء (مص): لکڑی یا درخت کی چھال۔ ضرب المثل ہے: لاتدخل بین العَصَا و لحائها: یعنی تو ایک گھر والوں یا جن سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے درمیان دخل نہ دے۔ اللِحْيان: تھوڑا پانی۔ - واحد لِحْيانة: سیلاب کے بنائے ہوئے گڑھے۔

۲-تَلَحّى تَلَحِّيًا: پگڑی کو ٹھوڑی کے نیچے لپیٹنا۔ اِلتحی اِلتحاءً: کی داڑھی اگنا، داڑھی رکھنا۔ اَللَّحْي جمع اَلْحٍ و لُحِيٌّ: جبڑا۔ ڈاڑھی نکلنے کی جگہ اور یہ لَحیانٌ ہیں۔ لَحْيَا الغدیر: تالاب کے دونوں کنارے۔ لَحْيانَ: سے تشبیہ کے طور پر جو منہ کے دونوں جانبوں کو کہتے ہیں۔ اللِحْيَة جمع لِحًی و لُحًی (نسبت کی صورت میں) لِحْوِی: داڑھی۔ لِحْيَةُ التَّيس (ن): ایک پودا لِحیۃ الحمار (ن): ایک پودا۔ اللِحْيانُ م لِحْيانة: لمبی داڑھی والا۔ الَالحَی او اللِحْيانی: لمبی یا بڑی داڑھی والا۔

لخ: ۱-لَخَّ لَخًّا و لَخِيخات عَيْنُهُ: آنکھ کا زیادہ آنسوؤں اور موٹی پلکوں والا ہونا صفت لَخِخَة۔ ـــ فی الكلامِ: غیر واضح گفتگو کرنا۔ ـــ فی الحضر: کھودنے میں جھکنا لَخِخَ لَخَخَات عَيْنُهُ: آنکھ کا زیادہ آنسوؤں والی اور موٹی پلکوں والی ہونا۔ صفت لَخِخَة۔ تَلاخَ الوادی: وادی کا تنگ اور درختوں سے بھری ہونا۔ اِلتَخَّ الامرُ: کام کا پیچیدہ ہونا۔ کہا جاتا ہے اِلتَخ علیهم الامر: ان کے لئے معاملہ پیچیدہ ہوگیا۔ ـــ العشبُ: گھاس کا گنجان اور گھنا ہونا۔ وادٍ لاخٍ: بہت تنگ اور گنجان درختوں والی وادی۔ اللَخَة (ع ا): ناک۔ اصل لَخُوخ: معیوب۔ اصل ـ وادٍ مُلتَخ: بہت گنجان درختوں والی وادی۔ سکرانٌ مُلتَخ: مخبوط الحواس شرابی۔

۲-لَخَّ لَخًّا الخبرَ: پوری خبر معلوم کرنا۔ لَخَّ فی الجبل: پہاڑ کے کنارے کنارے جانا۔

۳-لَخَّ لَخًّاہُ: کو تھپڑ مارنا ...ہُ بالطیب: کو خوشبو لگانا۔ امرأۃ لَخّۃ: بدبودار گندی عورت۔

۴-اللَخْلَخَانِيَّة: ناقص اظہار۔

لَخْلَخَ ہُ: کو زور زور سے ہلانا، الگ کر دینا، جھٹک دینا۔ تَلَخلَخ: ڈگمگانا، کانپنا، ہلنا، تھرانا، لڑکھڑانا۔ مُلَخلَخ: لرزان، متزلزل، لڑکھڑانے والا، زوال پذیر۔

لخب: لَخَبَ لَخْبًا و لاخَبَ مُلاخَبَۃً ہُ: کو تھپڑ مارنا۔ اللَخَب واحد لَخَبَۃ (ن): درخت گوگل۔ المُلَخَّب: جھگڑوں میں جسے خوب تھپڑ مارے گئے ہوں۔

لخص: لَخِصَ لَخَصًا: کے اوپر والے پپوٹے کا گوشت دار ہونا ـــ تْ عینہ: متورم آنکھ والا ہونا۔ ایسے شخص کی صفت اَلْخَص: ایسی آنکھ کی صفت لَخْصاء جمع لُخْص۔ لَخَّصَ الکلامَ: کلام کو مختصر کرنا، بیان کرنا۔ کہا جاتا ہے: لَخِّصْ لی خبرَكَ: مجھ سے اپنی خبر تھوڑا کر کے بیان کر ـــ الشیءَ: کا نچوڑ، خلاصہ یا لب لباب نکالنا۔ اللَخَص (مص): آنکھ کے پپوٹوں کی پیدائشی موٹائی۔ ضرع لَخِصٌ: بہت گوشت والا تھن جس سے دودھ بمشکل نکلے۔ رجلٌ لَخِصٌ: وہ مرد جس کا بالائی پپوٹا موٹا ہو۔ جفنٌ لَخِصٌ: گوشت دار یا سوجا ہوا پپوٹا۔ اللَخَصَة جمع لِخاص: آنکھ کے اندر کا گوشت۔ الَالْخَص: زیادہ واضح۔ المُلَخَّص (مفع): کہا جاتا ہے: هذا مُلَخَّصُ ماقالوہ: یہ ان کے قول کا خلاصہ ہے۔

لَخَّص ہُ: کو مختصر کرنا، کا خلاصہ کرنا، کا لب لباب بیان، کا اختصار کرنا، کو مختصر بنا دینا، کی تخفیف کرنا، کا انتخاب کرنا، اقتباس کرنا، کا خلاصہ بنانا، کی روح دینا، کا خاکہ بنانا، کو مختصر طور پر بیان کرنا۔ یُلَخَّصُ فی اَنْ: اس کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ...... تَلَخَّصَ فی: کا میں خلاصہ ہونا، کا میں اختصار ہونا، کی میں تخفیف ہونا، مختصراً معنی یا مطلب یہ ہونا کہ، گویا کہ، کا کی روح ہونا، کی تخفیف ہونا۔ تَلْخِيص: خلاصہ، ملخص، اختصار، لب لباب، جوہر، روح، پورا خاکہ، مختصر بیان، مختصر رپورٹ۔ مُلَخَّص: مختصر کیا ہوا، خلاصہ کیا ہوا، تخفیف کیا ہوا، جمع مُلَخَّصات: نچوڑ، اقتباس، خلاصہ، انتخاب، روح، جوہر، لب لباب، مطلب

لخف: لَخَفَ لَخْفًا ہُ: کو سخت مارنا۔ اللَخْف (مص): پتلا جھاگ۔ اللِخاف واحد لَخْفَة: سفید باریک پتھر۔

لخم: لَخَمَ لَخْمًا ہُ: کو تھپڑ مارنا ـــ الشیءَ: کو کاٹنا ـــ الرجُلُ: پر گوشت چہرے والا ہونا۔ لاخَمَ لِخامًا و مُلاخَمَۃً ہُ: ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا، طمانچے مارنا۔ اللَخْمَة: سستی، افسردہ دلی۔ رجُلٌ لُخْمَةٌ و لَخَمَةٌ: سست، ڈھیلا، ناکارہ، کاہل، کمینہ، تنگ دل، خسیس کنجوس، بخیل۔

لَخْمَة و لُخْمَة: سست، اناڑی، بھدا، ناکارہ، بے ڈھنگا۔

لخن: لَخِنَ لَخَنًا: بدبودار ہونا ـ الرجُلُ: قبیح باتیں کرنا، گندہ بغل ہونا صفت اَلْخَن م لَخْناء جمع لُخْن۔ لَخَّنَ ہُ: کو یاابنَ الخناء کہنا۔ لو (اے گندہ بغل عورت کے بیٹے) کہنا۔

لخو: لَخَا يَلْخُو لَخْوًا ہُ: کو ناک کے راستہ سے کوئی دوا چڑھانا۔

لخی: ۱-لَخِيَ يَلْخَى لَخًى: بہت بکواس کرنا۔ لَخِيَ يَلْخِي لَخْيًا و اَلْخَى ہُ: کو ناک کے ذریعے دوا چڑھانا، کو دوا نگلوانا، کو مال دینا۔ لاخَى لِخاءً و مُلاخاۃً الرجُلَ: سے دوستی کرنا، کا حلیف ہونا، سے تعاون کرنا ـــ فلانًا علی فلان: کسی کو کسی کے خلاف اکسانا ـ بہ: کی غیبت کرنا، چغلی کھانا۔ اللخا او اللَخَی و اللَخاء و المِلْخَی: جس سے ناک میں دوائی چڑھائی جائے۔ الَالْخَی: بکواسی، بیہودہ گو۔ و اللَخی من الجمال: اونٹ جس کا ایک گھٹنا دوسرے سے بڑا ہو۔ اللَخْواء: الَالْخَى کا مؤنث: عقاب جس کی چونچ کا اوپر کا حصہ نچلے حصہ سے لمبا ہو۔

۲-اِلتَخَى اِلتخاءً الصبیُّ: بچہ کا تر کی ہوئی روٹی کھانا۔ اسم اللِخاء ہے۔

لد: لَدَّ لَدًّا الرجُلَ: سے سخت جھگڑا کرنا، سے جھگڑے میں غلبہ حاصل کرنا ـــ ہُ عن الشیءِ: کو سے منع کرنا۔ لَدًّا و لُدُودًا اللَدُودَ: لدود دوا تیار کرنا ـــ فلانًا اللَدُودَ: کو لدود دوائی منہ کے گوشے سے پلانا۔ لادٌّ: منہ کے گوشے دوائی پلانے والا۔ مَلْدُود: جس کو منہ کے گوشے دوائی پلائی جائے۔ لَدَدًا: سخت دشمن یا جھگڑالو ہونا صفت اَلَدّ۔ کہا جاتا ہے ہُوَ اَلَدُّ بَيِّنُ اللَدَد: وہ سخت جھگڑالو ہے۔ لَدَّدَ بہ: کو بدنام کرنا۔ لادَّ لِدادًا و مُلادَّۃً الرجُلَ: سے سخت جھگڑا کرنا، سے جھگڑے میں غلبہ حاصل کرنا۔ عنہ: کی مدافعت کرنا۔ اَلَدَّ الرجُلَ: کو لدود دوائی پلانا، سے سخت جھگڑا کرنا، سے جھگڑے میں غلبہ حاصل کرنا ـ ہُ: کو سخت جھگڑالو پانا۔ بہ: کو

ٹالنا۔ کہا جاتا ہے: اَلْدَدْتُ بِهٖ: میں نے دشمنی میں اس کو عاجز کر دیا۔ تَلَدَّدَ: دائیں بائیں دیکھنا۔ اِلْتَدَّ الدواءَ: دوا نگلنا۔ ـــــ عن الشیءِ: سے ایک طرف کو ہو جانا۔ اللّادّ و اللَّدّ جمع اَلِدَّة و الأَلَدّ م لَدّاء جمع لُدّ: سخت جھگڑالو۔ اللَّدَد (مص): سخت جھگڑا۔ اللَّدُود جمع اَلِدَّة: سخت جھگڑالو۔ منہ کے گوشے سے پلانے کی یا کھلانے کی ایک دواء۔ اللَّدِید جمع اَلِدَّة: سخت جھگڑالو، منہ کے ایک گوشے سے دی جانی والی ایک دواء۔ اللَّدِیدان: گردن کے دو پہلو (کانوں کے نیچے)۔ وادی کے دو پہلو، ہر چیز کے دو پہلو۔ الأَلَنْدَد و الیَلَنْدَد: سخت جھگڑالو۔ المُتَلَدَّد (ع): گردن۔ کہا جاتا ہے: مالہ عنه مُحْتَدٌّ ولا مُلْتَدٌّ: اس کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

۲۔ لَدَّدَهُ: کو حیران کرنا۔ تَلَدَّدَ: حیران ہونا۔ ـــــ فی المکان: کسی جگہ ٹھہرنا۔

۳۔ لَدّ (مص): بورا، تھیلا۔

لَدَّدَ: کو بدنام کرنا، کی بے عزتی کرنا، پر تہمت لگانا۔ لَدَّدَ: پریشان کرنا، حواس باختہ کرنا، الجھانا، ہوش گم کرنا، حیرت میں ڈالنا۔ تَلَدَّدَ: بے بسی سے دائیں بائیں رخ بدلنا، پریشان ہو جانا، حیرت زدہ ہونا، منہ زور ہونا، سرکش ہونا، خودرائے ہونا، ضدی ہونا، اڑنا، ضد کرنا۔ لَدَد: سخت جھگڑا۔ لَدُود و اَلَدّ م لَدّاء جمع لُدّ و لِداد و اَلِدّاء: سخت، تیز تند، خونخوار، ہیبت ناک، مہیب، سنگدل، سنگ طبع، ضدی۔ عَدُوٌّ اَلَدّ: شدید دشمن، پکا دشمن، بڑا دشمن۔ عدو لَدُود: شدید دشمن، پکا دشمن، بڑا دشمن۔ مُتَلَدِّد: ضدی، ہٹ دھرم، سرکش، باغی، اڑیل۔

لدس: ا۔ لَدَسَ ـلَدْسًا هُ بیده: کو ہاتھ سے مارنا...... ه بحجر: کو پتھر مارنا۔ المِلْدَس جمع مَلادِس: گٹھلی توڑنے کا بڑا پتھر۔

۲۔ لدس ـلَدْسًا الشیءَ: کو چاٹنا۔ لَدَّسَ الخفَّ: موزے میں پیوند لگانا، موزے کی مرمت کرنا۔ اَلْدَسَتِ الارضُ: زمین کا کچھ سبزہ اُگانا، روئیدگی نکالنا۔ اللَّدِیس جمع اَلْداس: موٹا۔

۳۔ اللِّدْس: سست و نرم۔

لدغ: لَدَغَ ـلَدْغًا و تَلْداغًا هُ: کو ڈسنا۔ کہا جاتا ہے: لَدَغَهُ بکلمة: اس نے اُسے لفظوں سے تکلیف دی، بدنام کیا۔ اَلْدَغَ العقربَ فُلانًا: کو ڈسنے کیلئے اس پر بچھو چھوڑنا۔ اللّادِغ م لادِغة جمع لُدَّغ (فا): ڈسنے والا۔ اللَّدْغة: ایک بار ڈسنا۔ اللُّدّاغ: کانٹا یا اس کی تیز نوک۔ اللُّدّاغةُ من الرجال: طعن و تشنیع کرنے والا۔ اللَّدِیغ جمع لَدْغَی و لُدَغاء (مذکر و مؤنث کیلئے) ڈسا ہوا۔ کہا جاتا ہے: هم قوم لُدَغی و لُدَغاء: وہ لوگوں کو طعن و تشنیع کرنے والے ہیں۔ المِلْدَغ: گفتگو سے ڈسنے والا، طعن و تشنیع کرنیوالا۔

لَدَغَ ه: سانپ وغیرہ کا، کو ڈسنا۔ ـــــ هُ: کو طعنہ دینا، ملامت کرنا، کو ٹھیس پہنچانا، کو دل گیر کرنا۔

لدك: لَدِكَ ـلَدَكًا و لَدْكًا بِهِ: سے چپکنا۔

لدم: لَدَمَ ـلَدْمًا هُ: کو تھپڑ مارنا، کو کسی بھاری چیز سے مارنا جس کے لگنے کی آواز آئے۔...... الخبزَ من المَلَّة: روٹی کو بھوبھل سے نکالنا۔ لَدَمَ الثوبَ: کپڑے کو پیوند لگانا، درست کرنا۔ اَلْدَمَتْ علیه الحُمّی: کو بخار رہنا۔ تَلَدَّمَ الثوبُ: بوسیدہ ہونا، پیوند لگانے کے قابل ہونا۔ ـــــ الثوبَ: کپڑے کو پیوند لگانا۔ اِلْتَدَمَ: مضطرب ہونا، پریشان ہونا۔ ـــــ هُ: کو مارنا، دھکا دینا۔ ـــــ تِ النساءُ: عورتوں کا ماتم میں منہ پر طمانچے مارنا۔ اللّادِم جمع لَدَم (فا)۔ اللَّدْم (مص): پتھر کی زمین پر گرنے کی آواز۔ اللَّدَم: عزت دار رشتہ۔ اللِّدام: پیوند۔ اللَّدّام: پیوند لگانے والا، رفوگر۔ اللَّدِیم من الثیاب: بوسیدہ پیوند لگا کپڑا۔ المِلْدام: پتھر جس سے گٹھلی توڑی جاتی ہے۔ المِلْدَم: بمعنی المِلْدام: بیوقوف، پُرگوشت، بھاری۔ اُمّ مِلْدَم: بخار۔

لدن: ا۔ لَدُنَ ـلَدانَةً و لُدُونَةً: نرم ہونا صفت لَدْنٌ م لَدْنَة جمع لُدْن و لِدانٌ۔ ـــــ ت اخلاقُهُ: نرم خو ہونا، پسندیدہ اخلاق والا ہونا۔ لَدَّنَ الشیءَ: کو نرم کرنا۔ ـــــ ثوبَهُ: کپڑا تر کرنا، بھگونا۔ کہا جاتا ہے: هو لَدْنُ الخَلِیقة: وہ نرم طبیعت ہے۔

۲۔ لَدَّنَهُ فی الامر: کو کھٹائی میں ڈالنا۔ تَلَدَّنَ: کاہلی کرنا۔ ـــــ بالمکان: کسی جگہ میں رہنا۔ ـــــ علیه: سے معذرت چاہنا۔ کہا جاتا ہے: تَلَدَّنَتْ علَی راحِلتی: میری سواری نہیں چلی۔

۳۔ المُلَدَّن من الطعام: وہ کھانا جو اچھی طرح نہ پکایا گیا ہو، خراب پکا ہوا کھانا۔ لَدُن و لَدَن و لُدْن و لَدِن و لَدْن و لَدُ: ظرف زمان و مکان۔ عِند کے معنی میں، پاس، موجودگی میں۔ ظرف مکان کے طور پر زیادہ قریب اور خاص ہے۔ صرف حاضر میں استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: لَدُنْهُ مالٌ: اس کے پاس مال ہے۔ مِنْ سے مجرور کہنا بھی جائز ہے۔ کہا جاتا ہے: جِئْتُ من لدنه: میں اس کے پاس سے آیا۔ ظرف زمان سے قبل واقع ہو تو ظرف کو اضافت سے مجرور بنانا جائز ہے۔ جیسے لَدُن غُدْوَةٍ (صبح کو) تمیز کے طور پر نصب آتا ہے۔ جیسے: لَدُن غُدْوَةً۔ کہا جاتا ہے: لی الیه لُدُنَّة: مجھے اس سے حاجت ہے۔

لَدُنَ ـلَدانَةً و لُدُونَةً: نرم ہونا، ملائم ہونا، لچکدار ہونا، لوچ دار ہونا، سکڑنے پھیلنے والا ہونا۔ لَدَّنَ هُ: کو نرم کرنا، ملائم کرنا، پتلا کرنا، اعتدال پر لانا، ڈھیلا کرنا، ہلکا کرنا، کم کرنا۔ لَدْن جمع لُدُن و لِدان: نرم، سلیم الطبع، لچکدار، اثر پذیر۔ ملائم، سکڑنے پھیلنے والا (elastic)، لوچدار، ڈھلنے والا، ڈھلنے کے قابل۔

لاذَن و لاذِن: افیون کا ست، افیون کا آمیزہ۔ الکحل اور افیون کا محلول۔ لَدانَة و لُدُونَة: نرمی، ملائمت، لوچ، لچک، جھکنے کی صلاحیت، ڈھل جانے کی صلاحیت، صورت پذیری۔ لَدائِن: پلاسٹک۔ لَدُن: پر، پاس، قریب، سامنے، قریب، کے قریب، کی موجودگی میں، کے سامنے، کے آگے، ساتھ، کے پاس۔ مِن لَدُن: سے، کی طرف سے، سے، جب سے، تب سے۔ لدن ان: یہی معنی۔ لَدُنّی: باطنی، صوفیانی، پُرجلال۔ العلم اللدنی اور العلوم اللدنیة (تصوف میں) اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست بذریعہ باطنی وجدان عطا کردہ معرفت۔

لدی: اَلْدَی اِلْداءً: زیادہ ہم عمروں والا ہونا۔ اللِّدَة جمع لِدات و لِدُون: ہم عمر، ہم تربیت۔ (کہا جاتا ہے: هو لِدَتی: وہ میرا ہم عمر ہے) وقتِ ولادت۔ لَدَی: ظرف مکان بمعنی لَدُن۔ اضافت کے ساتھ آتا ہے۔ لَدُن کی طرح اسے مِن سے مجرور بنانا جائز نہیں۔ آپ کہتے ہیں: لَدَیَّ مالٌ: میرے پاس مال ہے۔

لدی: پر، پاس، قریب، کی موجودگی میں، کے سامنے، پہلے، ساتھ۔ لَدَی الحاجة: ضرورت کی صورت یا حالت میں، اگر ضروری ہوا۔ لَدَیْهِ: اس کے پاس ہے۔ مالَدَیْكَ: حالت جس میں آپ ہیں، تمہاری ذہنی حالت۔ لیس لدینا ...... غیر ما: ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے کہ......

لذّ: ا۔ لَذَّ ـلَذاذًا و لَذاذةً الشیءُ: لذیذ ہونا، خوش مزہ ہونا، مرغوب ہونا، مزے دار ہونا صفت لَذّ و لَذِیذ۔ لَذًّا و تَلَذَّذَ و اِلْتَذَّ الشیءَ و بِه: کو لذیذ پانا۔ لَذَّذَهُ: کو خوش کرنا، محظوظ کرنا۔ تلاذًّا: ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنا۔ اِسْتَلَذَّ الشیءَ: کو لذیذ پانا۔ اللَّذّ (مص): مزے دار، مرغوب، نیند۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ لَذٌّ: شیریں کلام، میٹھی گفتگو کرنے والا۔ اللَّذّة جمع لَذّات: مزا، خوشی، آرام، لذت، سرور، خوشنودی، شراب۔ الأَلَذّ: زیادہ لذیذ۔ المَلَذّ جمع مَلاذّ:

لذت کی جگہ۔ المَلَذَّۃ جمع مَلَذَّات: خواہش۔

۲۔ لَذَّ لَذَّ: چست و پھرتیلا ہونا۔ اللَّذلاذ: چست و پھرتیلا، جلدی کرنے والا۔ (ح): بھیڑیا۔

لَذَّ ۔لَذاذًا و لَذاذَۃً: میٹھا ہونا، شیریں ہونا، لذیذ ہونا، خوش ذائقہ ہونا، خوشگوار ہونا، مزیدار ہونا، تسکین دہ ہونا۔ لَذَّ و اَلَذَّ ہ: کو خوش کرنا، محظوظ کرنا، کی خواہش پوری کرنا۔ تَلَذَّذ و اِلتَذَّ ب: سے خوش ہونا، مسرور ہونا، لطف اندوز ہونا، سے تسکین پانا۔ ہ: کو لذیذ پانا، خوشگوار پانا، سے مزہ اٹھانا۔ اِستَلَذَّ ہ: کو لذیذ یا خوشگوار پانا، کو مسرت بخش یا خوش آئند پانا، سے لطف اندوز ہونا۔ مَلَذَّۃ جمع مَلَذّات و مَلاذّ: فرحت، خوشی، مسرت، شادمانی طرب، سرور، لذت، سہولت، آرام پہنچانے والی چیز، لطف، مزا، تفریح، عیش پسندی، عیاشی۔ مُتَلَذِّذ: خوش خوراک، لذیذ کھانوں اور شرابوں کا شوقین، عیش پسند، شہوت پرست۔

لذب: لَذَبَ ۔لُذُوبًا و لاذَبَ مُلاذَبَۃً بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔

لذج: لَذَجَ ۔لَذَجَاۃً: سے سوال میں اصرار کرنا۔...... الماءَ: پانی کا گھونٹ لینا۔

لذع: ا۔ لَذَعَ ۔لَذَعَات النارُ الشیءَ: آگ کا چیز کو جلا ڈالنا۔ — الحُبُّ قَلبَہُ: محبت کا دل کو تکلیف پہنچانا۔ — فلانًا بلسانہ: کو گفتگو سے دکھ پہنچانا۔ — البعیرَ: اونٹ کو داغنے کے لوہے سے داغنا۔ — الرجُلُ بذکائہ: ذہانت سے جلد سمجھ لینا۔ تَلَذَّعَ: تیز فہم ہونا، ذہین ہونا، دائیں بائیں متوجہ ہونا جیسے کوئی بات اُسے پریشان کر رہی ہو۔ — تِ النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ اِلتَذَعَ: درد سے جلن ہونا۔ اللاذِعۃ جمع لَواذِع: لاذع کا مؤنث۔ لواذِعُ الکلام: تکلیف دہ گفتگو۔ کہا جاتا ہے: نعوذ باللّٰہ من لواذعہ: ہم اس کی ایذادہ گفتگو سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللَّذّاع: لاذع کا اسم مبالغہ۔ کہتے ہیں: رجُلٌ مَذّاعٌ لَذّاعٌ: وعدہ خلاف (کیونکہ ایسا آدمی اپنی زبان سے اچھا وعدہ کر کے وعدہ خلافی سے دکھ دیتا ہے)۔ اللَّذَع: جلن پیدا کرنے والی شراب (نبیذ)۔ اللَّوذَعُ واللَّوذَعِیُّ: تیز فہم، فصیح اللسان، خوش بیان۔

لَذَعَ ۔لَذَعًا الطائرُ: پرندہ کا پھڑپھڑا کر بازوؤں کو تھوڑا سا ہلانا۔

لَذَعَ ۔لَذَعًا ہ: کو جلانا...... ہ: پر داغ لگانا، کلنک کا ٹیکہ لگانا، کو داغنا، کو باتوں سے دکھ پہنچانا، کی توہین کرنا، کے دل کو ٹھیس پہنچانا۔ تَلَذَّعَ: جلنا۔ لَذع: جلنا، آگ، آتش، بھابھڑ، آتش زدگی۔ لذع النبادق: رائفل فائر (rifle fire)۔ لَذّاع: جلتا ہوا، بہت گرم، جھلستا، تیز، چبھتا ہوا، درشت خو، سخت تکلیف دہ، طنز بھرا، دل خون کرنے والا۔ لَوذَع و لَوذَعی: زیرک، دانشمند، طباع، خوش تدبیر، ایجاد کا ماہر، اختراع پسند، بذلہ سنج، ذکی، زود فہم، حاضر جواب۔ لَوذَعِیَّۃ: اپج، خوش تدبیری، ایجاد، کا مادہ، اختراع، زیرکی، فراست، ہوشمندی، زود فہمی، ذکاوت، چوکسی، ہوشیاری۔ لاذِع: تیز، چبھتا ہوا، سخت تکلیف دہ، طنز بھرا، دل خون کرنے والا۔ لاذِعۃ جمع لواذِع: طعنہ۔ اللاذِقِیَّۃ: لتاکیہ (مغربی شام کی ایک بندرگاہ)۔

لذم: لَذِمَ ۔لَذَمًا ہُ الشیءُ: کو کوئی چیز اچھی لگنا، بھلی معلوم ہونا۔ — بالشیءِ: کسی چیز پر شیفتہ ہونا، کسی چیز کا حریص ہونا۔ — بالمکان: کسی جگہ ٹک کر رہنا۔ اَلذَمَہُ الشیءَ و بہ: کو کا حریص بنانا، شیفتہ بنانا۔ — بالمکان: کسی جگہ میں ثابت قدم ہونا۔ — ہُ بفلانٍ: کو کسی سے وابستہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَلذِم لفلانٍ کرامَتَکَ: فلاں کے لئے اپنا احترام جاری رکھو۔ اُلذِمَ بفلان: پر فریفتہ ہونا۔ رجُلٌ لَذِمٌ و لُذَمۃ بالشیءِ: کسی چیز کا شوقین۔ اللُّذَمَۃ: کسی چیز کا عادی، گھر سے جدا نہ ہونے والا۔ المِلذَم: بہادر، شجاع۔ رجُلٌ مِلذَمٌ بالشیءِ: کسی چیز کا شوقین۔

لذن: اللاذَن (ن): ایک آبی پودا، پھول چوڑے گلابی یا سفید رنگ کے، بحر ابیض متوسط کے ساحلوں پر جھاڑی بنوں میں بکثرت پایا جاتا ہے...... واللاذنۃ: ایک قسم کی گوند۔

لذی: لَذِیَ یَلذَی لَذًی بالامر: سے چمٹنا، کا شوقین ہونا۔ الذی: اسم موصول ہے۔ اس میں پانچ لغات ہیں: اللَّذِ و اللَّذْ و اللَّذِیُّ و اللَّذِیِّ و لَذِی: مؤنث اللتی۔ تثنیہ اللذان و اللَّذا و اللَّذانِّ جمع الَّذِینَ و اللاؤون و اللاؤُو۔ بعض حالت رفع میں اللذون اور نصب اور جر میں واللذین کہتے ہیں۔ تصغیر اللذی کی اللُّذَیّا۔ تثنیہ اللُّذَیّان اور جمع اللُّذَیُّون ہے۔ معنی: وہ شخص جو، وہ چیز جو، وہ (جو شخص)، وہ (جو چیز) جو۔

بعدَ اللُّتَیّا واللَّتی: طویل بحثوں کے بعد، بعد از خرابیٔ بسیار، خدا خدا کر کے۔

لز: لَزَّ ۔لَزًّا و لِزازًا الشیءَ بالشیءِ: چیز کو چیز سے باندھنا، ملانا، جوڑنا، لگانا، لازم کرنا...... الشیءُ بالشیءِ: سے چپکنا، لگا لپٹا رہنا۔ — ہ الی کذا: کو پر مجبور کرنا — ہ بالرمح: کو نیزہ مارنا — القومُ: اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا۔ لَزَّ اللّٰہُ فلانًا: اللہ کا فلاں شخص کو مضبوط اور گٹھے ہوئے جسم والا بنانا۔ لازَّ لِزازًا و مُلازَّۃً ہ: کے ساتھ رابطہ کر کے اُسے جھگڑے میں تنگ کرنا۔ اَلَزَّ الشیءَ: کو باندھنا، چمٹانا۔ اِلتَزَّ بہ: سے چمٹنا، ملنا۔ اللَّزّ (مص): دروازہ کی کنڈی۔ اللِّزّ: ساتھی، وابستہ دامن۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لِزُّ شرٍّ و لزیزُ شرٍّ: فلان ایسا شخص ہے جو شرارت سے باز نہیں آتا۔ اللزز و اللِزاز (مصدر ہیں): دروازہ کی بلی، سخت جھگڑا۔ عیشٌ لَزَزٌ: تنگ زندگی، بدحالی۔ اللَّزِیزَۃ جمع لَزائِز: لزیز کا مؤنث۔ اللزائز سینہ کی ہڈیاں۔ المِلَزّ: سخت جھگڑالو (مذکر و مؤنث کے لئے)۔ المِلزَۃ (اع): چمڑے یا دھات کا گول ٹکڑا جس کے درمیانی حصہ میں چھید ہوتا ہے اور پائپ کے منہ کے نیچے باندھتے ہوئے رکھا جاتا ہے۔ اس کو رونڈل کہتے ہیں۔

لَزَّ ۔لَزًّا و لَزَزًا و لَزازًا ہ ب: کو سے باندھنا، کو سے مربوط کرنا یا سختی سے جوڑنا، کو سے متحد کرنا، کو سے چمٹانا۔ لَزَّزَ ہ: کو سختی سے جوڑنا، دبانا۔ لَزَّ: لبالب یا کھچا کھچ بھرنا — ہ الی: کو پر مجبور کرنا۔ تَلازَّ: باہم کھچا کھچ بھرا ہوا ہونا، ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ تَلَزَّزَ و اِلتَزَّ ب: سے متحد ہونا، جڑا ہونا، مربوط ہونا، سے چپکنا، لگا یا لپٹا رہنا، کے ساتھ پکا یا قائم رہنا۔ لَزّ و لِزّ: بلی، کھٹکا، چٹخنی، اڑواڑ تختوں کو ملانے اور دبانے کا اوزار، مڑا ہوا تار یا سلاخ۔ مُلَزَّز: لبالب یا بھرا ہوا، کھچا کھچ بھرا ہوا، ساتھ ملا ہوا، مضبوط، ٹھوس، مضبوط، پختہ، چست۔

لزأ: لَزَأَ ۔لَزْءًا الاناءَ: برتن بھرنا۔ — الماشیۃ: مویشی کو سیر کرنا۔ — فلانًا: کو دینا۔ کہا جاتا ہے: لَزَأَتہُ اُمُّہُ: کو (ماں کا) جننا۔ لَزَّأ و اَلزَأ الاناءَ والماشیۃ: برتن بھرنا، مویشی کو سیر کرنا۔ تَلَزَّأ الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔

لزب: ا۔ لَزَبَ ۔لُزُوبًا: مضبوطی سے قائم ہونا۔ — بہ: سے چمٹنا۔ — تِ السَّنَۃُ: قحط سالی ہونا۔ — لَزَبات العقربُ فلانًا: بچھو کا کسی کو ڈسنا۔ لَزِبَ ۔لَزَبًا الطینُ: مٹی کا سخت اور چپکنے والی ہونا۔ لَزُبَ ۔لَزْبًا و لُزُوبًا الطینُ: مٹی کا سخت اور چپکنے والی ہونا۔ — الشیءُ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ تلازبَ الشیءُ: تہہ بہ تہہ ہونا۔ اللازِب (فا): ثابت۔ کہا جاتا ہے: صارَ الامرُ ضربۃَ لازِبٍ: کام ضروری اور ناگزیر ہو گیا۔ طِینٌ لازِبٌ: ہاتھ سے چپکنے والی مٹی۔ اللَّزِب: تنگ راستہ۔ اللَّزْبَۃ جمع لِزَب و لَزَبات: شدت، سختی، قحط۔ سَنَۃٌ لَزبَۃٌ: سخت سال، قحط کا سال۔ المِلزاب جمع مَلازیب: انتہائی کنجوس، بڑا بخیل۔

۲۔ اللَزَب جمع لِزاب: تھوڑا۔ کہا جاتا ہے: ھو عَزَبٌ لَزَبٌ: وہ کنوارا ہے۔ اللِزّاب (ن): ایک قسم کا بڑا درخت۔ اس سے بہت عمدہ لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ لبنان کے اونچے علاقوں اور جبل الشیخ میں اُگتا ہے۔

◯ لَزَبَ ۔ لُزُوبًا: مضبوط ہونا، مضبوطی سے جما ہونا، برقرار رہنا۔ ــ ب: سے چپکنا، لگا یا لپٹا رہنا۔ لَزِبَ ۔ لَزَبًا: متحد رہنا، مربوط ہونا۔ لَزِب جمع لِزاب: تھوڑا۔ لَزْبة جمع لِزَب: مصیبت، بلا، آفت، مصیبت ناگہانی۔ لازِب: چپکنے والی (چیز)، سخت مضبوط، مضبوطی سے جمی ہوئی (چیز)۔ صارَ ضربةَ لازِبٍ: ضروری ہو جانا، ناگزیر ہو جانا۔ ضُربَ ضربةَ لازِبٍ: سخت مصیبت سے دوچار ہونا، مصیبت کا شکار ہونا۔

لزج: لَزِجَ ۔ لَزَجًا و لُزُوجًا: لیسدار ہونا، چپکنے والا ہونا۔ صفت لَزِج ـــ العَسَلُ با صبعه: انگلیوں سے شہد کا چپک جانا۔ تَلَزَّجَ: چپکنے والا ہونا، لیسدار ہونا۔ ـــ البقلُ: سبزی کا لچکدار ہونے کی وجہ سے ایک کا دوسرے پر جھکنا۔ ـــتِ الدابةُ البقولَ: جانور کا سبزی کا پتہ چلانا۔ رجُل لُزُجَةٌ و لَزِجَةٌ و لَزِيجَةٌ: گھر پر رہنے والا۔ اللُزُوجَة: لَزِج کا اسم، لسلساپن، چپ چپاپن، چپچپاہٹ، گاڑھاپن۔

◯ لَزِج: چپکنے والا، لیس دار، جس پر لیسدار تہ جمع ہو گئی، چپچپا، لسلسا، گاڑھا، جوڑنے والا، ثابت قدم۔

لزق: لَزِقَ ۔ لَزَقَاتُ الرِئةُ بالجنب: پیاس کی وجہ سے پھیپھڑے کا پہلو سے چپکنا۔ ـــ لُزُوقًا و الْتَزَقَ به: سے چمٹنا، چپکنا۔ لَزَّقَ الشيءَ: کو چپکانا، کو اناڑی پن سے کرنا۔ لازَقَ لِزاقًا و مُلازَقَةً ہٗ: کو چپکانا۔ الْزَقَ ہ بہ: کو سے چپکانا۔ اللِزْق: پہلو، ساتھی۔ کہا جاتا ہے: ھو لِزقی او بِلِزقی: وہ میرا ساتھی ہے یا میرے پہلو میں ہے۔ اللِزاق (مص): لئی، سریش۔ لِزاق الذهب و لزاق الحجر و لزاق الرخام: ان خاص دھاتوں سے بنائی جانے والی دوائیں۔ اللَزُوقَة: پٹی، مرہم جو جسم کے درد والے حصہ پر لگایا جاتا ہے تاکہ درد میں کمی ہو یا درد دور ہو۔ ـــ عند الجراحين: پلستر۔ اُذُنٌ لَزْقاء: سر سے چپکا ہوا کان۔ اللَزُون و اللَزُوق (طب): زخم کی دوا۔ اللَزِيق: قریب بہ پہلو۔ کہا جاتا ہے: ھو لَزِيقي: وہ میرے پہلو میں ہے۔ اللَزِيق (ح): سمندری گھونگھا۔ اللُزَيقاء و اللَزَّيقَى (ن): بارش کی صبح پتھروں کی جڑوں میں اُگنے والی چیز۔ المُلزَق: منہ بولا بیٹا۔

◯ لَزِقَ ۔ لُزُوقًا ب: سے چپکنا، چمٹنا، کے ساتھ لگا رہنا۔ لَزَّقَ ہ: کو ملانا، لگانا، جوڑنا، نتھی کرنا، کو کسی سے جوڑنا، چسپاں کرنا، فہرست میں نام درج کرنا۔ ...... ہ ل: کو کسی کے گلے دھوکہ سے منڈھنا۔ الْزَقَ ہ: کو کسی سے جوڑنا، کو جوڑنا، کو لگانا، نتھی کرنا، چسپاں کرنا۔ اِلتزق بمعنی لَزِق: لِزق: (سے) متصل، ملحق، (سے) ملحقہ، (سے) ملا ہوا، (کی) ہمسائیگی میں۔ لِزْقَه یا بلِزْقه: کے پہلو کے قریب، کے قریب۔ لَزِق: چپکنے والا، چپچپا، لسلسا۔ لَزْقة: بندھن، پٹی (جس پر پانی اثر نہ کرے اور زخم خراب نہ ہو، زخم پر باندھنے کی پٹی، پلاسٹر۔ لِزاق: لیسدار، چپکانے والا، جوڑنے والا، ثابت قدم، سریش، سیمنٹ، لئی۔ لَزُوق و لازوق: پٹی، پلاسٹر، چپکانے والا پلاسٹر، پلاسٹر۔

لزم: ا۔ لَزِمَ ۔ لُزُومًا و لَزْمًا و لَزَامًا و لِزامًا و لِزامَةً و لُزْمَةً و لُزْمانًا الشيءُ: لازم رہنا، ہمیشہ ثابت رہنا۔ ـــ بيتَهٗ: گھر میں رہنا، کہیں نہ جانا۔ ـــہٗ المالُ: پر مال واجب ہونا۔ ـــ الغريمَ و بہ: قرض دار کو چمٹے رہنا۔ ـــ الامرُ: کا حکم واجب ہونا۔ ـــ كذا عن كذا: سے لازم آنا۔ لازَمَ لِزامًا و مُلازَمَةً ہٗ: کے ساتھ رہنا، جدا نہ ہونا۔ اَلْزَمَ اِلزاماً الشيءَ: کو لازم کرنا، ہمیشہ رکھنا۔ ـــہٗ المالَ و العملَ او بالمال و العمل: مال یا کام کو پر واجب کرنا۔ کہا جاتا ہے: الزمتُ خصمي: میں اپنے حریف پر جھگڑے میں غالب آیا۔ اِلْتَزَمَ ہٗ: کے ساتھ رہنا، جدا نہ ہونا۔ ـــ فلانًا: کو پکڑنا، گرفت میں لانا، کو پکڑنے کی کوشش کرنا۔ ـــ العملَ او المالَ: کام یا مال کو اپنے پر واجب کرنا۔ ـــ القرية او العشر او غيرهما: پیداوار کے بدلہ گاؤں کی مالگذاری یا عشر وغیرہ کا ضامن ہونا۔ اِستَلزَمَ الشيءَ: کو ضروری سمجھنا، ضروری کرنا۔ اللازِم م لازِمَة جمع لَوازِم (فا): ضروری۔ کہا جاتا ہے: صارَ الامرُ ضربةَ لازمٍ: یہ کام ضروری ہو گیا۔ لِزام: لگاتار، پیوستہ۔ ضربةٌ لِزام: لگاتار، پیوستہ ضرب۔ اللِزام (مص): موت، حساب، بہت چمٹنے والا۔ اللُزَمَة: چمٹا رہنے والا، جدا نہ ہونے والا۔ اللُزُومية: لَزِم کا اسم۔ المُلازِم (ا ع): فوجی عہدہ جو لفٹیننٹ کے برابر ہے۔ المِلزَم و المِلزَمة جمع مَلازِم: لکڑی یا لوہے کا شکنجہ۔ المَلزُوم: لازم کیا ہوا۔

۲۔ لَزَم ـــ لَزْماً الشيَ: کو جدا کرنا، ممیز کرنا۔ اللِزام: فیصلہ۔ واللازِم: فیصلہ کرنے والا۔

◯ لَزِمَ ۔ لُزُوما ہ: سے چمٹنا، چپک جانا، جڑا رہنا، کے ساتھ جانا، کی رفاقت کرنا، سے لگاؤ رکھنا، تعلق ہونا، میں ثابت قدم رہنا، پر قائم رہنا، پر جمے رہنا، میں لگے رہنا، کو کرتے رہنا، کی کوشش کرتے رہنا۔ ـــ ہ: کے ساتھ جڑا رہنا، سے مربوط ہونا، کے قریب رہنا، کے ساتھ باوفا رہنا۔ ـــ ہ/ہ: سے جدا نہ ہو سکنا۔ ـــ ہ: میں مستقل اقامت کرنا۔ لَزِمَ: ضروری ہونا، لازمی ہونا۔ لَزِمَ ہٗ: کے لئے مطلوب بہ (شے) ہونا، اشد ضروری ہونا، ناگزیر ہونا، پر فرض ہونا، واجب ہونا، کا فرض ہونا۔ لزِمَ دارَہ (فراشَہ): گھر پر رہنا، صاحب فراش ہونا۔ لزم الصمت: خاموش رہنا۔ لازَمَ ہٗ: کے ساتھ جانا، کی رفاقت کرنا، سے چپکنا، چسپاں ہونا، پر قائم رہنا، کے ساتھ رہنا، کو لگاتار کرنا، کے ساتھ لگا رہنا، کی صحبت میں ہونا، کے ارد گرد ہر دم ہونا، کو سونپا جانا، کے ساتھ جانا، کی معیت میں ہونا، کی خدمت کرنا، تیمارداری کرنا...... ہ/ہ: سے جدا نہ ہو سکنے والا ہونا، لاینفک ہونا ـــ ہ: کوئی کام کرتے رہنا، پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، میں ثابت قدم رہنا، کے لئے ثابت قدمی سے کام کرنا، کے لئے اچھی طرح نبھائی ہوئی کارروائی یا سرگرمی کرنا۔ اَلْزَمَ ہ ہ: کو پر مجبور کرنا، کو پر ٹھونسنا...... ہ ہ/ب: پر کوئی کام بطور فرض عائد کرنا، کو کا پابند کرنا۔ الزمه الحُجَّة: پر ثبوت دینے کے لئے زور ڈالنا، کو دلیل تسلیم پر مجبور کرنا۔ الزمه الفراش: کو بستر میں رہنے کا پابند کرنا۔ الزَمَہٗ المال او بالمال: پر کسی رقم کی ادائیگی عائد کرنا۔ تَلازَمَ: جدا نہ ہو سکنے والا ہونا، ایک دوسرے سے معروف ہونا، وابستہ ہونا۔ اِلْتَزَمَ ہ: سے چمٹنا، لگا رہنا، جڑا رہنا: کو کرتے رہنا، میں ثابت قدم رہنا، پر جما رہنا، میں لگا رہنا، کی کوشش کرتے رہنا، کو تسلیم کرنا، کی اطاعت کرنا، کا بوجھ یا ذمہ داری اٹھانا، کی عادت ڈال لینا، کو دستور بنا لینا، کو اپنا فرض بنا لینا، اپنے آپ پر عائد کرنا ـــ ہ/ب: کو فرض کی طرح لینا، اختیار کرنا، کا عہد کرنا، اپنے آپ کو کچھ کرنے کا پابند کرنا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑہ اٹھانا، کا فرض منصبی، فرض، اخلاقی فرض ہونا، کا پابند ہونا، کا مستوجب ہونا، پر مجبور ہونا، کا ذمہ دار ہونا، کا اجارہ ہونا، کا اجارہ لینا، کا اجارہ قائم کرنا بلا شرکت غیرے کوئی (تجارت وغیرہ) کرنا۔ اِستَلزَمَ ہ: کو ضروری سمجھنا، کو ضروری بنانا، کی ضرورت پیدا کرنا، کو ناگزیر بنانا، کا تقاضا ہونا، کی ضرورت ہونا، درکار ہونا، کی حاجت ہونا، کا مطلوب ہونا۔ لُزْمة جمع لُزَمات: سرکاری رعایت، لائسنس، حق رائے وہی یا شہریت یا وہ حق جو کسی فرد یا جماعت کو دستور میں دیا گیا ہو۔ لُزُوم: احتیاج، ضرورت، حاجت مندی، ضروری چیز۔ حسب اللزوم: جیسا کہ مطلوب ہے، ضروری

ہے۔عند اللزوم: ضرورت پڑے تو، ضرورت پڑنے کی صورت میں، اگر ضروری ہو۔لِزام: ضروری، ضروری مطلوبہ چیز، ضرورت، فرض، ذمہ داری کا احساس۔ کان لِزاما علیه ان: کا فرض ہونا کہ، کیلئے ضروری ہونا کہ۔اَلزَم: زیادہ ضروری، سب سے زیادہ ضروری۔ مَـلـزَمَة: قطع عدد یا لفظ جو فرموں کے شمار کے لئے چھاپا جاتا ہے۔ مِلزَمَة: شکنجہ۔اِلزام: دباؤ، جبر، مجبوری، زبردستی۔الـزامی: لازمی، ضروری، جبری، مطلوب۔اِلتزام جمع التـزامات: ضرورت، فرض، فریضہ، احساس ذمہ داری، احساس فرض، ذمہ داری، وعدہ، پابندی، ٹھیکہ، ٹھیکہ کا معاہدہ، ٹھیکہ پر دینا، رعایت، لائسنس، حق رائے دہی و شہریت: وہ حق جو کسی فرد یا جماعت کو دستور میں دیا گیا ہو، اجارہ۔ التـزامـاً: ٹھیکہ کے ذریعے، کام کے مطابق۔قـام بـالتزاماته: اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا۔ کاللازم: جیسا کہ اسے ہونا چاہیے، مناسب طور پر، خوش اسلوبی سے۔لازِمَة: مقررہ وصف، جبلی خصوصیت، معینہ طرز کلام۔مَـلـزوم: مجبور، پابند، رہین منت، ذمہ دار، جواب دہ، مستوجب، جسے رقم ادا کرنا ہو۔ مَـلـزُوم بالاداء: قابل محصول، ٹیکسوں کا مستوجب۔ ملزُومِيَة: فرض، ذمہ داری، پابندی۔مـلازم: سیکنڈ لفٹیننٹ۔ ملازم اوّل: فسٹ لفٹیننٹ۔ ملازمٌ ثان: سیکنڈ لفٹیننٹ۔مُلتَزِم: پابند، معاہدہ شدہ، مراعات یافتہ، اجارہ دار، ٹھیکیدار۔مُلتَـزَم جمع مُلتـزَمـات: ضرورت۔مُستَلزَمَات: ضرورتیں، بنیادی شرطیں، اولین شرائط، مطلوبہ (اشیاء)، ضروری یا ناگزیر نتائج۔

لزن: لَزَنَ -لَزَنًا و لَزِنَ -لَزَنًا و تلازَنَ القومُ: لوگوں کا بھیڑ کرنا، جمگھٹا کرنا۔اللزْن (مص): تنگی۔عیش لَزْنٌ: تنگ زندگی۔ماءٌ لَزْنٌ: تنگ پانی جو مشقت کے بعد حاصل ہو۔مکانٌ لَزْنٌ و لزِنٌ و مَلزُونٌ: بھیڑ والی جگہ۔اللزْنة و اللزنة جمع لِزَن: تنگی۔لیلة لَزُنَةٌ: بھوک، سردی یا خوف وغیرہ سے سخت رات۔ زمانٌ الزَنٌ: سخت زمانہ۔

لزو: اللاَزُورْد و اللازَوَرْد: ایک قیمتی پتھر سرخی و سبزی مائل نیلگوں رنگ کا جو بطور زیور استعمال ہوتا ہے۔ العلازوردی: نیلگوں رنگ کا۔

لسّ: الـسَّ -لَسًّا القصعةَ: پیالہ چاٹنا۔ـت الدابّةُ الـکـلاءَ: جانور کا گھاس کو زبان کے کنارے سے کھانا۔ــ الطعامَ: کھانا کھانا۔اَلَسَّ المکانُ: کسی جگہ کا شروع سبزہ اگانا۔الـلُسَاس: پودوں کی کونپلیں۔ ــ و اللُساس (ن): کھردرا گھاس۔

٢۔اللُسُس: ماہر اونٹ والے۔

لسب: لَسَبَ -لَسْبًا تهُ الحیَّةُ: کو سانپ کا ڈسنا۔ـہ بالسـوط: کو کوڑے سے مارنا۔ــ بلسانه: کو سخت سست کہنا۔لَـسِبَ -لَسَبًا به: سے چپکنا۔ــ العسَلَ: شہد چاٹنا۔اَلْسَبَ الحیَّةَ فلاناً: کو سانپ سے ڈسوانا۔رجُلٌ لَسَّـابَةٌ للناس: لوگوں کو طعن و تشنیع کرنے والا آدمی۔ کہا جاتا ہے: ما ترَكَ لَسُوباً او لَسُّوبا: اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔

○ لَسْتِك و لَسْتِيك: ربڑ، مٹانے والی ربڑ۔

لسد: لَسَدَ -لَسْدًا و لَسِدَ -لَسَدًا الاناءَ: برتن چاٹنا۔ــ العسَلَ: شہد چاٹنا۔ــ اُمَّهُ: ماں کا تمام دودھ پی جانا۔فصیل مِلْسَدٌ: اونٹنی یا گائے کا بچہ جو اپنی ماں کا تمام دودھ پی جاتا ہو۔

لسع: الـسَعَ -لَسْعًا هُ: کو ڈسنا۔ بعض کے نزدیک ڈنک سے ڈسنے کو لسع اور منہ سے ڈسنے کو لَـدْغ کہتے ہیں۔ چنانچہ بچھو ڈنک سے ڈستا ہے اور سانپ منہ سے۔ــ ہُ بلسانه: کو زبان یا بات سے تکلیف پہنچانا۔اَلْسَعَ فلاناً عقرباً: کو بچھو سے ڈسوانا۔ــ بین القوم: قوم میں اختلاف ڈلوانا۔اللُسَعَة و اللَسَّاع: باتوں سے دکھ پہنچانے والا۔اللَسِیع جمع لَسْعَی و لُسَعَاء: ڈسا ہوا۔

٢لَسَعَ -لَسْعًا فی الارض: زمین میں سفر کرنا۔

٣لُسِّعَ الـرجُلُ: خانہ نشین ہونا۔الـمُلَسَّعَة: خانہ نشین۔المُلَسِّعَة: مقیم گروہ۔

٤۔اللُسُوع: بہت سے شگاف۔المِلْسَع: ماہر رہبر۔

○ لَسَعَ -لَسْعًا ه: کو ڈنک مارنا۔ـ ه: کو جلانا۔ـ ہ: کو باتوں سے ٹھیس پہنچانا۔لَسْعَة: ڈنک۔طنز بھرے لفظ۔لاسِع: ڈنک مارنے والا، جلانے والا، طنز بھرا، درشت خو، تنگ مزاج، تیز، چبھتا ہوا۔

لسق: لَسِقَ -لُسُوقاً و اَلْسَق و الْتَسَقَ: چمٹنا، چپکنا۔ کہا جاتا ہے: هو لِسْقی و لَسِیقی: وہ میرا قریبی دوست ہے۔اللَسُوق (طب): ایک دوا لزوق جیسی (دیکھو الملوق) المُلْسَق: مُتَبَنّی، منہ بولا بیٹا۔

لسم: لَسَمَ -لَسْمًا: چکھنا۔ کہا جاتا ہے: ما لَسَم لَسَامًا: اس نے کوئی چیز نہیں چکھی۔لَسِمَ -لَسَمًا: حیا کی وجہ سے چپ رہنا، بول نہ سکنا۔ـ ہُ: کے ساتھ ہونا۔اَلْسَمَهُ الطریقَ: کو راستہ پر رکھنا۔......ہُ کلاماً: کو کلام سکھانا، کو کلام کی تلقین کرنا۔ــ و استَلْسَمَ الشیءَ: چیز طلب کرنا، ڈھونڈنا۔

لسن: لَسَنَ -لَسْنًا فلانًا: سے بہتر بیان والا ہونا، کو برائی سے یاد کرنا، گفتگو میں غالب آنا.........ـہُ العقربُ: کو بچھو کا ڈسنا۔ــ ولَسَّنَ الشیءَ: چیز کو زبان کی طرح نوک دار بنانا۔لَسِنَ -لَسَنًا فلانٌ: بہت فصیح و بلیغ ہونا، خوش بیان ہونا۔لاسَنَ مُلاسَنَةً الـرجُلَ: پر جھگڑے اور بولنے میں غلبہ پانا۔اَلْسَنَ فلانـاً قولاً او رسالةً: کو بات یا چٹھی پہنچانا۔ کہا جاتا ہے: اَلْسِنّی فلانا و اَلْسِنْ لی فلاناً کذا و کذا: فلاں کو میری یہ باتیں پہنچادو۔تَلَسَّنَ علی فلان: پر جھوٹ بولنا، افتراء کرنا۔ــ الجمرُ: چنگاری کا بھڑکنا۔اللِسْن: زبان، لغت، کلام۔اللَسَن: فصاحت۔اللَسِن: زبان کی شکل والا، خوش بیان۔ اللِسَان جمع اَلْسِنَة و اَلْسُن و لُسُنٌ و لِسانات: زبان مذکر و مؤنث۔ زیادہ تر مذکر۔ (کہا جاتا ہے: فلانٌ ذولِسَانَین: فلاں شخص منافق، دغاباز اور فریبی ہے۔اَلْسِنَةُ الناس علیه حَسَنَةٌ: یعنی لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں) لغت، خط، چٹھی...... عند الجغرافیین: سمندر میں گئی ہوئی ہموار زمین کا سرا۔ اسے الف بھی کہا جاتا ہے۔لسانُ العرب: عربوں کی زبان (لغت)۔لِسَـان الـقـوم: قوم کا نمائندہ یا ترجمان۔لسَانُ الحال: زبان حال یا ظاہری حالت سے جو کیفیت معلوم ہو۔لِسَانُ الـصِدق: اچھی شہرت، اچھا چرچا۔لِسَانُ المیزان: ترازو کا وہ حصہ جو تولتے وقت ہاتھ میں رہتا ہے۔لِسَانُ النار: آگ کا شعلہ۔لِسَانُ الحَمَل (ن): ایک قسم کا پودا۔ لِسانُ الکلب (ن): ایک قسم کا پودا۔ لسان السبع (ن): ایک قسم کا پودا۔لِسَانُ الشُعَل: ایک قسم کا پودا۔لسان العصافیر: دردار درخت کا پھل۔ الحروف اللسانیة: ر، ز، س، ش، ص، ض۔ الـلُسَیِّن: گھاس کی چوٹی سے نکلنے والی پتلی سی افزائش، مخلوط خاندان کے کرن پھول کا تاج گل۔ المُلسِن (فا): فصیح، بہت بولنے والا۔المِلْسَن: وہ پتھر جو دروازے کے اوپر شکار کے لئے لٹکاتے ہیں۔ اور اس کے نیچے گوشت کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں۔ جب کوئی درندہ اسے اٹھانے لگتا ہے تو پتھر گر کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔

المُلَسِّن (فا): فکر و حیرانی سے۔زبان کاٹنے والا۔ المُلَسَّن (مفع): زبان کی طرح نوک دار بنایا ہوا۔نَعْلٌ مُلَسَّنَةٌ: زبان کی شکل کی سینڈل۔الـمَلسُون: جھوٹا، شیریں کلام۔

○ لَسِن -لَسَنًا: جادو بیان ہونا، شیریں کلام ہونا۔ لَسَّن ہ: کو تیز کرنا، مخروطی شکل کا بنانا، کو نوک دار بنانا۔ لِسان (مذکر مونث) جمع اَلْسِنَة و اَلْسُن: زبان،

لغت، مہنال، کسی کی طرف سے بولنے والا (mouthpiece) ترجمان (خصوصاً) جو اخبار یا کسی خاص جماعت کی ترجمانی کرے (organ)۔ علی لسانہٖ: اس کی زبانی، اس کے ذریعہ، اس کی معرفت۔ علی لسان الصحف: پریس کے ترجمان کے ذریعے۔ قیل علی لسانہ ما: اس سے ایسی باتیں منسوب کی گئیں کہ ...... افواہ ہے کہ اس نے ایسی باتیں کیں کہ ...... لسان رسمی: سرکاری ترجمان۔ متحدث بلسان وزارۃ الخارجیۃ: وزارت خارجہ کا ایک ترجمان یا نمائندہ (spokesman)۔ باللسان یا لساناً: زبانی۔ دار علی السنۃ الخاص و العام: شہر بھر کی گفتگو ہونا، ہر ایک کے لب پر ہونا۔ لِسان الحال: زبان حال، وہ زبان جو چیزیں خود بولیں، خاموش زبان، بے زبان اظہار۔ (کسی جماعت یا سیاسی تحریک کا) ترجمان، اخبار۔ ولسانُ حالہٖ یقول: جب کہ وہ کہتا ہوا معلوم ہوا، ایسے ڈھنگ سے جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ۔ لِسانُ الحَمَل: کیلا، ایک قسم کا نرم شے کا درخت۔ لِسان العُصفُور: جنگلی درخت کی ایک قسم۔ لِسانُ القفل: چٹخنی، کھٹکا۔ لِسانُ القوم: کسی گروہ کا ترجمان یا نمائندہ۔ لِسانُ المفتاح: کنجی کی جڑ۔ ذولسانین: دو زبانوں والا، دو چہروں والا، حیلہ گر، دغا باز، فریبی، مکار، ریاکار، بے وفا، منافق، سخن ساز، جھوٹا، خود مطلبی۔ لسانی: زبانی۔ مَلْسُون: جھوٹا۔ لِشْبُونَہ: لِسبَن (پرتگال کا دارالحکومت)

لسو: لَسَا یَلْسُو لَسْوًا: تھوڑا کھانا۔

لش: ا۔ لَشَّ ۔لَشًّا ہٗ: کو دھتکارنا۔ اللَّشّ (مص): ماش (دیکھو وش) (ن) سُمّاق: (ایک پودا جس کی پتیاں چمڑہ رنگنے کے کام آتی ہیں)۔

۲۔ لَشْلَشَ: ڈر سے بیقرار ہونا۔ اللشلاش: ڈر سے بیقرار ہونے والا۔

لشو: لعشا یَلْشُو لَشْوًا: خسیس ہونا، خبیث اور پاجی ہونا۔ لاشٰی مُلاشَاۃً الشیءَ: کو معدوم کرنا۔ تَلاشٰی تلاشِیاً الشیءُ: مضمحل ہونا، معدوم ہونا، نیست ہونا ـــ المریضُ: مریض کے قوی کا رفتہ رفتہ کمزور ہونا اور اس کا قریب المرگ ہو جانا۔ ـــ من التعب: تھکاوٹ سے قوی کا کمزور ہو جانا۔ التلاشی: اضمحلال

⭘ لاشٰی ہٗ: کو دبانا، کچلنا، تباہ کرنا، برباد کرنا، نیست و نابود کرنا۔ تَلاشٰی: دبایا جانا، کچلا جانا، تباہ و برباد کیا جانا، نیست و نابود کیا جانا، معدوم ہونا، تباہ و برباد ہو جانا، ناکام ہونا، کالعدم ہونا، نظر سے اوجھل ہو جانا،

کافور ہو جانا، غائب ہونا، ناپید ہونا، جاتا رہنا، گم ہونا، زوال پذیر ہونا، انحطاط ہونا، زائل ہونا، پژمردہ ہونا، ماند پڑنا۔

لص: ا۔ لَصَّ ۔لَصًّا الشیءَ: کو چرانا، کو خفیف طریقے سے پردہ میں کرنا۔ ۔لَصَصًا و لَصَاصًا و لُصُوصِیَّۃً و لَصُوصِیَۃً: چور ہونا۔ تَلَصَّصَ: چور ہو جانا، چوروں جیسے اخلاق والا ہونا۔ اللَّصّ و اللِّصّ و اللُّصّ جمع لُصُوص و اَلْصَاص و لِصَصَۃ و لِصَاص م لصّۃ جمع لَصَّات و لَصَائِص: چور۔ المَلَصَّۃ: بہت چوروں والی زمین، چوروں کا گڑھ، اسم جمع بمعنی لصوص: یعنی بہت سے چور۔

۲۔ لَصَّ ۔لَصًّا الباب: دروازہ بند کرنا۔ لَصَّصَ البنیان: عمارت کو مضبوط بنانا۔ اِلْتَصَّ الشیءُ بہ: سے چمٹنا۔ اللَّصَص (مص): کندھوں یا دانتوں کی آپس کی نزدیکی۔ الاَلَصّ: نزدیک کندھوں والا، نزدیک دانتوں والا۔ اللَّصَّاء جمع لُصّ: الألص کا مونث۔ تنگ پیشانی، آگے پیچھے سینگوں والی بکری۔

۳۔ لَصْلَصَ الوتدَ و نحوَہٗ: میخ وغیرہ کو نکالنے کے لئے ہلانا۔

⭘ تَلَصْلَصَ: چوری چھپی کام کرنا۔ لِصّ جمع لُصُوص و اَلْصَاص: چور، رہزن، ڈاکو۔ لَصُوصِیۃ: چوٹا پن، چرانے کی عادت، چوری۔ متلصلص: چوٹا، چور جیسا رویہ رکھنے والا۔ اَتٰی مُتَلَصْلِصًا اِلَیّ: وہ میرے پاس کھسک آیا، چپکے سے چلا آیا۔

لصب: لَصِبَ ۔لَصَبًا الجلدُ باللحم: دبلے پن کی وجہ سے چمڑے کا ہڈی سے لگ جانا۔ ـــ الخاتم فی الاصبع: انگوٹھی کا انگلی میں تنگ ہونا اور نکالنا مشکل ہونا۔ ـــ السیفُ فی الغِمد: تلوار کا میان میں چمٹ جانا۔ اِلْتَصَبَ الشیءُ: تنگ ہونا۔ اللِّصْب جمع لُصُوب و لِصَاب: وادی کا تنگ حصہ، گھاٹی۔ اللَّصِب: بخیل، تنگ اخلاق والا۔ اللواصِب: تنگ اور گہرے کنویں۔ کہا جاتا ہے: سیفٌ مِلْصَاب: میان میں اکثر پھنس جانے والی تلوار۔ طریقٌ مُلْتَصِبٌ: تنگ راستہ۔

لصت: اللِصْت و اللَّصْت و اللُّصْت جمع لُصُوت: چور۔

لصغ: لَصِغَ ۔لُصُوغًا الجلدُ: جلد کا ہڈی پر خشک ہونا۔

لصف: لَصَفَ ۔لَصْفًا الحجارۃَ: پتھر کو ترتیب سے جوڑنا۔ ـــ لَصَفًا و لَصِیفًا و لُصُوفًا لونُہٗ: کا رنگ چمکنا۔ لَصِفَ ۔لَصَفًا الجلدُ: جلد کا ہڈی پر خشک ہو

جانا اور اس پر چپک جانا۔

لصق: لَصِقَ ۔لَصَقًا و لُصُوقًا و اِلْتَصَقَ بالشیءِ: سے چپکنا، چمٹنا۔ لاصَقَ مُلاصَقَۃً ہٗ: سے جڑا رہنا، سے متصل و ملحق ہونا، کا ہم صحبت ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اَلْصَقَ الشیءَ بالشیءِ: کو سے چپکانا۔ ـــ بعرقوب البعیر: اونٹ کی کونچیں کاٹنا۔ اللِّصْق و اللَّصِیق: نزدیک رہنے والا۔ کہا جاتا ہے: ھو لِصْقِی و بلِصْقِی و لَصِیقِی: وہ میرے پہلو کے ساتھ رہتا ہے۔ اللَّصُوق: زخم پر چپکایا جانے والا مرہم، عضو پر باندھنے کی پٹی۔ المُلْصَق م مُلْصَقَۃ (مفع): منہ بولا بیٹا۔

⭘ لَصَّقَ ہٗ: کو جوڑنا، چپکانا۔ لاصَقَ ہٗ: سے ملحق، متصل یا ملا ہوا ہونا، کے ساتھ ہونا، کو چھونا، ...... ہٗ: سے رابطہ میں ہونا۔ اَلْصَقَ ہٗ ب: کو سے قریب لانا۔ ہٗ ب: کو کے خلاف دبانا۔ اَلْصَقَ لوحۃً: عام اعلان کی جگہ پر لگانا۔ اَلْصَقَ بہ تُھْمَۃً: کے خلاف الزام لگانا۔ تَلاصَقَ: آپس میں چمٹنا، چپکنا، متحد یا مربوط ہونا، بستہ ہونا، ڈلا بن جانا، اکٹھا ہونا، پڑنا، گھل مل جانا، ایک ہو جانا۔ اِلْتَصَقَ بمعنی لَصِقَ۔ نیز اِلْتَصَقَ ب: سے چمٹے رہنا، سے چپکنا، پر فٹ آنا۔ بِلِصْقِہٖ: سے متصل، سے قریب۔ ھو بلِصْقِی یا ھو لِصْقِی: ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ لَصُوق: پلاسٹر (plaster)۔ مُلاصَقَۃ: اتصال، میل، ساتھ، اتحاد، تعلق، رابطہ، پیوند، رشتہ، ربط، نزدیکی، قرب، پیوستگی، قریبی تعلق۔ اِلْصَاق: پوسٹر، دیوار پر چسپاں ہونے والا اشتہار۔ مُلْصَق: ملک، نتھی، لئی یا گوند سے چسپاں کیا ہوا، جوڑا ہوا، قریب کیا ہوا، متصل، جمع مُلْصَقات: پوسٹر، دیوار پر چسپاں کیا جانے والا اشتہار، بلے کارڈ۔

لصو: لَصَا یَلْصُو لَصْوًا المرأۃَ: عورت پر تہمت لگانا، کو گالی دینا۔ ...... ہٗ و لَصَا الیہ: شک کی وجہ سے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔

لصی: لَصَی یَلْصٰی لَصْیًا الیہ: بمعنی لصاہ و لصا الیہ۔ ـــ ہٗ: پر عیب لگانا۔ ـــ الرجلُ: گنہگار ہونا۔ اللَّصَاۃ: عیب۔

لض: لَضْلَضَ لَضْلَضَۃً: دائیں بائیں بہت دیکھنا۔ اللَّضْلاض: ماہر رہنما۔

لضم: لَضَمَ ۔لَضْمًا ہٗ: پرسختی کرنا، زور دینا۔

⭘ مَلْضُوم: گنجان (صف) ملی ہوئی (قطار)

لضو: لَضَا یَلْضُو لَضْوًا الرجلُ: ابھار ابھر ہونا۔

لط: ا۔ لَطَّ ۔لَطًّا الباب: دروازہ بند کرنا ـــ الشیءَ: کو

چھپانا۔ الستر: پردہ لٹکانا۔ عنه و علیه الخبرَ: سے خبر چھپانا۔ الناقةُ بذنبها: دوڑتے وقت اونٹنی کا اپنی دم کو رانوں میں دبانا۔۔۔۔ الشیءَ بکذا: کو سے چپکانا۔۔۔۔ بالامر: پر کام کالازمی ہونا۔ اَلَطَّ علیه الامرَ: سے بات چھپانا۔۔۔۔ بالحجاب: پردہ چھوڑنا یا گرانا۔۔۔۔ الرجلُ: جھگڑے یا کام میں سخت ہونا۔ اِلْتَطَّ: چھپنا۔۔۔۔ الشیءَ: کو چھپانا۔۔۔۔ بالمسك: مشک میں لتھڑنا۔ اللَطّ (مص) جمع لِطَاط: ہار یا حنظل کے رنگدار دانوں کی مالا۔ مخالف اللَطَطُ: چیز کا چھپانا، دانتوں کا گرنا یا کھایا جانا۔ اللِطَاط: وادی کا کنارہ۔ اللَطَاط: پہاڑ کی چوٹی کا کنارہ، پہاڑ کا پہلو۔ الألَطّ: جس کے دانت گر گئے ہوں یا کھائے گئے ہوں اور صرف جڑیں رہ گئی ہوں۔ المِلْطَاط: کرنی (لیپ یا پلاسٹر کرنے کی)، بیلن، وادی کا کنارہ، ساحل سمندر، پہاڑ کی چوٹی کا کنارہ، پہاڑ کا پہلو، چلتا راستہ، گھر کا صحن، چکی یا ہتھ چکی، دماغ تک پہنچنے والا زخم۔ ترسٌ مَلْطُوط (مفع): اوندھی کی ہوئی ڈھال۔

۲۔ لَطَّ ـلَطًّا الرجلَ حقَّهُ و عن حقّه: کے حق سے انکار کرنا۔۔۔۔ ـلَطًّا هٗ: کو لاٹھی سے مارنا۔ اَلَطَّ الغریمُ: کا حق روکنا۔۔۔۔ و تَلَطَّط حقَّ فلان: کے حق سے انکار کرنا۔ تین طاؤں (ط ط ط) کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے یہی مفہوم تلطّی حقه کہہ کر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اللَطَط: قرض خواہ کا حق روکنا۔

۳۔ اَلَطَّ فلانًا: کی مدد کرنا۔

۴۔ اللاطّ و المُلِطّ: خبیث، بدمعاش۔

لطا: لَطَأَ ـلُطُوءًا بالارض: زمین سے چمٹنا۔۔۔۔ هٗ بالعصا: کی پیٹھ پر لاٹھی مارنا۔ لَطِیءَ ـلَطًأ بالارض: زمین سے چمٹنا۔ اللاطِئة: اچھا نہ ہونے والا پھوڑا، دماغ تک پہنچنے والا زخم، چھوٹی ٹوپی جو سر سے چپکی ہوتی ہے۔ المِلْطَأ و المِلْطَاة: سر کی ہڈی اور اس کے گوشت کے درمیان کا باریک پردہ۔

لطث: ۱۔ لَطَثَ ـلَطْثًا هٗ: کو کسی چوڑی/چپٹی چیز سے مارنا، کو تھپڑ مارنا۔۔۔۔ هٗ بحجر: کو پتھر مارنا۔۔۔۔ هٗ الامرُ: پر کوئی کام مشکل یا بھاری ہونا۔ تلاطَثَ الموجُ: موجوں کا ٹکرانا۔۔۔۔ القومُ: ہاتھوں سے ایک دوسرے کو مارنا۔ المَلاطِث: جسم کے وہ حصے جو چوٹ لگنے یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے درد کریں۔

۲۔ لَطِثَ ـلَطَثًا الشیءُ: خراب ہونا۔

۳۔ لَطَثَ ـلَطْثًا الشیءَ: کو جمع کرنا۔

لطح: لَطَحَ ـلَطْحًا هٗ: کو تھپڑ مارنا۔۔۔۔ به: کو زمین پر پٹک دینا۔

لطخ: لَطَخَ ـلَطْخًا و لَطَّخَ الشیءَ بالمداد و نحوه: کو سیاہی وغیرہ سے آلودہ کرنا، لتھیڑنا۔۔۔۔ هٗ بشرٍّ: پر دھبا لگانا، داغ لگانا، کلنک کا ٹیکہ لگانا، پر برائی کا الزام لگانا، عام لوگ کہتے ہیں: لطخ المصباح بالنار: اس نے چراغ کو آگ کے قریب کیا اور وہ جلنے لگا۔ تَلَطَّخ: آلودہ ہونا، لتھڑنا۔۔۔۔ بامر قبیح: شرمناک کام سے داغدار ہونا۔۔۔۔ بشر: برا کام کرنا۔ اللَطْخ (مص): ہر چیز کا تھوڑا حصہ۔ کہا جاتا ہے: سمعتُ لَطْخًا مِن خبر: میں نے تھوڑی خبر سنی۔ فی السماء لَطْخٌ مِن السحاب: آسمان میں تھوڑا سا بادل ہے۔ اللَطِخ: کھانے میں گندا، ہر وہ چیز جو اپنے رنگ پر نہ ہے۔ اللَطُوخ: جس سے آلودہ کیا جائے۔ اللُطْخَة جمع لُطَخَات و اللَطِیخ: احمق، بے وقوف۔

۞ لَطَخَ ـلَطْخًا ہ ب: کو سے داغدار کرنا، پر کا دھبہ ڈالنا، پر کا داغ لگانا، کو سے لتھیڑنا، پر کے چھینٹے ڈالنا، کو میں لت پت کرنا، کو سے آلودہ کرنا۔ تَلَطَّخ: گندا ہونا، دھبا پڑنا، بدرنگ ہونا، بٹہ لگنا، داغ لگنا۔ لَطْخَةٌ جمع لَطَخَات: داغ، دھبہ، سیاہی کا بڑا سا دھبہ، بڑا سا بدرنگ دھبہ، بے عزتی، ذلت، رسوائی۔ لُطَخَة جمع لُطَخَات و لطیخ: گدھا، احمق، الو، بے وقوف، گاؤدی۔

لطس: لَطَسَ ـلَطْسًا هٗ: کو طمانچہ مارنا، کو کسی چوڑی چیز سے مارنا۔۔۔۔ الشیءَ: کو سخت روندنا، کو باریک پیسنا۔۔۔۔ هٗ بحجر: کو پتھر سے مارنا۔ الحجرَ بالحجر: پتھر کو پتھر سے مارنا۔ لاطَسَ مُلاطَسَةً هٗ: سے لتھڑنا، آلودہ ہونا۔ تلاطَسَ الموجُ: لہروں کا آپس میں ٹکرانا، متلاطم ہونا۔ المِلْطَس جمع مَلاطِس و المِلْطاس جمع مَلاطِیس: گٹھلی کوٹنے کا پتھر، پتھر توڑنے کا ہتھوڑا، جس سے پتھروں یا چکیوں پر نقوش بنائے جاتے ہیں، اونٹ کا پاؤں۔

۞ مِلْطاس: تبر، کدال جمع مَلاطِیس۔

لطش: لَطَشَ هٗ: کو ہاتھ سے مارنا (عام زبان میں)۔ لَطَّشَ ثیابَه: کپڑے گندے کرنا (سریانی عام زبان میں)۔

لطع: ۱۔ لَطَعَ ـلَطْعًا الکلبُ او الذئب الماءَ: کتے یا بھیڑئیے کا پانی پینا۔۔۔۔ الشیءَ بلسانه: کو زبان سے چاٹنا۔۔۔۔ ت البئرُ: کنوئیں کا پانی خشک ہو جانا۔۔۔۔ هٗ بالنار: کو آگ سے جلانا (گویا آگ کے شعلہ نے اسے چاٹ لیا) (عام زبان میں)۔۔۔۔ اسمَهٗ: کے نام کو دیوان سے مٹانا، دیوان میں نام لکھنا (ضد)۔ کہا جاتا ہے: لَطَعَ إصبَعَهٗ: مرجانا۔ لَطِعَ ـلَطَعًا: کے دانتوں کا گرنا اور صرف ان کی جڑوں کا باقی رہنا۔ صفت اَلْطَع۔۔۔۔ لَطْعًا الشیءَ بلسانه: کو زبان سے چاٹنا۔ تَلَطَّعَت الابلُ: اونٹ کے دانت بسبب بڑھاپے کے گر جانا۔ اِلْتَطَعَ: برتن یا حوض کا سب پانی پی جانا۔۔۔۔ الشیءَ: کو چاٹنا۔ اللَطْع (مص): ہونٹوں کے اندر کی طرف کی سفیدی۔ اللُطَعَة: بچے کے نیچے رکھا جانے والا موم جامہ۔ اللَطّاع: کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے والا۔ اللَطْعَاء جمع لُطْع: الالطع کا مؤنث، لاغر۔

۲۔ لَطَعَ ـلَطْعًا الغرضَ: اپنا مقصد حاصل کرنا۔ عینَهٗ: آنکھ پر تھپڑ مارنا۔۔۔۔ فلانًا بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔۔۔۔ و لَطِعَ ـلَطْعًا فلانًا: کو پیچھے سے لات مارنا۔

۳۔ اللَطْع جمع الطاع: تالو۔ رجلٌ لُطَعٌ: کمینہ، دنی الاصل، بخیل، کنجوس۔

۞ لَطَعَ ـلَطْعًا ہ: کو مارنا۔۔۔۔ ہ: کو مٹانا، قلم زن کرنا۔ لَطْعة: داغ، دھبہ۔

لطف: ا۔ لَطَفَ ـلُطْفًا بفلان و لِفلان: پر/سے مہربانی کرنا۔ اللّٰهُ بالعبد و له: اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو توفیق دینا اور کرم فرمانا، کو بچانا۔ لَطُفَ ـلُطْفًا و لَطَافَةً: چھوٹا ہونا، باریک ہونا۔ صفت لَطِیف: کہا جاتا ہے: لَطُفَ عنه: سے چھوٹا ہونا۔۔۔۔ کلامُهٗ: کے کلام کا نرم ہونا۔ کہا جاتا ہے: لُطِفَ به: اس سے مہربانی کی گئی۔ لَطَّفَ الشیءَ: کو نرم بنانا، لطیف بنانا۔ لاطَفَ مُلاطَفَةً هٗ: سے نرمی کا برتاؤ کرنا، سے نرمی سے بات کرنا۔ اَلْطَفَ السؤالَ: اچھی طرح سوال کرنا، خاکساری سے سوال کرنا۔۔۔۔ هٗ بکذا: کو کا تحفہ دینا، سے کی مہربانی کرنا۔ تَلَطَّفَ الامرَ و فی الامر: میں خاکساری کرنا، کی التجا کرنا۔ تَلاطَفَ القومُ: آپس میں میل ملاپ کرنا۔ تلاطفوا فی الامر: میں نرمی کرنا۔ اِسْتَلْطَفَ هٗ: کو لطیف پانا۔ اللُطْف (مص) جمع الطاف من قبل اللّٰه: اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور حفاظت۔ اللَطَف جمع اَلْطَاف: تھوڑا کھانا، احسان، تحفہ۔ کہا جاتا ہے: هؤلاء اَلْطافُ فلان: یہ لوگ فلاں شخص کے ساتھی اور اہل ہیں۔ اللَطَفَة: تحفہ، ہدیہ۔ اللَطْفَان: نرمی کرنے والا۔ اللَطَّاف: بہت نرمی برتنے والا۔ اللَطِیف جمع لِطَاف و لُطَفاء: لطف و کرم والا، مہربان، نرم، باریک، پاکیزہ، اسماء حسنی میں سے:

بندوں پر احسان کرنے والا، باریک سے باریک باتوں کا جاننے والا۔ ...... من الكلام مخفی معنی والا کلام۔ ...... من الاحرام نازک جسم، نرم جسم۔ اللطيفة جمع لطائف لطیف کا مؤنث، دل میں انس پیدا کرنے والا نکتہ۔ التلطيف (مص) عند الفراء: فتح کو کسرہ کی طرف اور الف کو یاء کی جانب جھکانا۔ (الامالة)۔ المُلَطِّف (طب) سکون بخش یا مسکن دوا۔

۲۔ لطف ـُ لُطفًا الشیءَ قریب ہونا۔ الطف الشیءَ بجنبہ کو پہلو سے چمٹانا۔ ...... بہ حیلہ کر کے اس کے بھیدوں سے واقف ہونا۔ استلطف الشیءَ بجنبہ کو پہلو سے چمٹانا۔ اللواطف من الاضلاع سینہ میں ملی ہوئی پسلیاں۔

۳۔ لطف ـُ لُطفًا/ب سے مہربان اور بامروت ہونا۔ لطُف ـُ لَطافةً باریک ہونا، نازک ہونا، نفیس ہونا، حسین ہونا، پاکیزہ، شستہ ہونا، نازک مزاج ہونا، دل آویز ہونا، دلکش ہونا۔ لطّف ہ کو نرم کرنا، ہلکا کرنا، دھیما کرنا، کو کم کرنا، گھٹانا، ڈھیلا کرنا، کو تسکین پہنچانا، کو افاقہ دینا، میں تخفیف کرنا۔ ...... ہ من کو کم کرنا، کو اعتدال پر لانا، کی سختی کم کرنا، کو نرم کرنا، کو ہلکا کرنا۔ لاطف ہٗ سے نرمی کا برتاؤ کرنا، کے ساتھ فیض رسانی سے پیش آنا، کے ساتھ خلیق، شائستہ اور مہذب ہونا، بامروت، بااخلاق ہونا، کے مطابق کام کرنے والا ہونا، بہت ہی مہربان، شفیق یا مشفق ہونا، کو خوش کرنا، کی خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا، پر پیار سے ہاتھ پھیرنا، کو چومنا، کو بہت لاڈ پیار کرنا۔ لاطفہ علی کتفہ کے کندھے پر تھپکی دینا۔ تلطّف کم ہونا، اعتدال پر آنا، نرم ہونا، مہذب، خلیق یا شستہ ہونا، بامروت اور مہربان ہونے کا مظاہرہ کرنا ...... ب کو از راہ کرم کرنا۔ ـــ ب علی کو از حد مہربانی سے کچھ عطا کرنا، کو کچھ دینے کی مہربانی کرنا۔ (جیسے کو مشورہ دینے کی مہربانی کرنا)۔ ...... ب کے ساتھ نفیس ہونا، پرلطف یا خوشگوار ہونا، نرم ہونا، محبت آمیز ہونا، کو ہموار بنانا، کو ساتھ ملا لینا (مختلف حیلوں، ناقابل بیان ذرائع یا نوازشوں سے)۔ ـــ ب فی کوئی کام نرمی، احتیاط سے کرنے لگنا۔ ـــ ب کو در پردہ، مخفی طور پر، یا پوشیدہ طور پر کرنا۔ تلاطف اپنے آپ کو بامروت اور مہربان ظاہر کرنا، مہذب، خلیق یا شائستہ ہونا، خوش اخلاق ہونا، نفاست پسند ہونا۔ استلطف ہ کو خوبصورت، شیریں، خوشگوار، پرلطف یا نفیس پانا، کو پسند کرنا، کو خوشگوار اور دلکش، مرغوب اور پسندیدہ پانا۔ لُطف جمع الطاف: مہربانی، فیض رسانی، دوستانہ سلوک، نرمی، شائستگی، شرافت، بردباری، شفقت، نرم دلی، نرمی، ملائمت، خوش خلقی، مروت، نفاست، زیرک، خوبصورتی، نزاکت، جسم کی نزاکت آمیز خوبصورتی۔ بلُطفٍ: آہستگی سے، دھیمے سے، نرمی سے۔ لَطافة: باریکی، نفاست، نزاکت، لطافت، دلکشی، خوش اسلوبی، دلربائی، دل آویزی، حسن و جمال، مہربانی، کرم، فیض رسانی، دوستانہ سلوک، شائستگی، خوش خلقی، مروت، خلق، زندہ دلی، شگفتگی، شستگی، تصنع، بناوٹ۔ لَطیف جمع لطاف و لُطفاء: باریک، نازک، نفیس لطیف، خوش ذائقہ، مزیدار، لذیذ، تھوڑا، چھوٹا، غیر اہم، نرم، دھیما، ہلکا، ملائم، شیریں، معتدل، خوشگوار، دل پذیر، سہانا، ملنسار، خوش خلق، دل آویز، دلکش، قابل محبت، مہربان، مشفق، دوستی کا برتاؤ کرنے والا، مہذب، خلیق، بامروت، شائستہ، متواضع، باادب، خندہ جبیں، خوش اخلاق، صحت بخش، خوبصورت، دل فریب، دلربا، من موہنا، حسین، جاذب نظر، شائستہ، زندہ دلی سے پر، تیز طبع، ذہین، بذلہ سنج، پرلطف شستہ، پاکیزہ، خوبصورت و خوش وضع۔ اللطيف اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک نام۔ يا لطيف اے میرے خدا۔ الجنس اللطيف صنف نازک۔ لطيفة جمع لطائف: پھبتی، لطیفہ، چٹکلا، مذاق کا فقرہ، چست کیا ہوا فقرہ، مذاق، دل لگی، لطافت، نزاکت، باریکی، موشگافی، نفیس اور لذیذ چیزیں۔ لطائف الحِيَل: لطیف چالیں۔ لطائف النكات: لطیف مذاق۔ الطف: زیادہ اچھا، زیادہ خوب، زیادہ نازک، زیادہ مہربان، زیادہ نفیس، زیادہ خوشگوار، زیادہ پرلطف، زیادہ شستہ۔ مُلاطَفة: دل آویز سلوک یا برتاؤ، دل آویزی، دلکشی، مروت، شائستگی، تہذیب، انسانیت، خوش خلقی، دوستانہ سلوک، فیض رسانی، مہربانی، پیار، چمکار، جمع مُلاطَفات: بوسہ بازیاں، ناز برداریاں۔ مُلَطِّفات: مسکن دوائیں۔

لطم: لَطَمَ ـِ لَطْمًا ہٗ: کو تھپڑ مارنا، اسی سے ضرب المثل ہے: لو ذاتُ سِوارٍ لطمتني کاش کہ کوئی کنگن والی عورت مجھے طمانچہ مارتی، (بہتر صورت کے مقابلہ میں گھٹیا صورت اختیار کرنے پر یا کم رتبہ شخص کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔) لَطَمَ ہٗ بکذا: کو سے چپکانا۔ ـ ت الغرّةُ الفرسَ: گھوڑے کی پیشانی پر کی سفیدی کا لمبا چوڑا ہونا۔ لُطِمَ الفرسُ: گھوڑے کا ایک رخسار پر سفید داغ والا ہونا صفت لَطِيم مذکر و مونث کے لئے) جمع لُطُم ۔ ـــ الرجلُ: مظلوم ہونا۔ لطّمَ ہٗ: کو زور سے تھپڑ مارنا۔ ـــ الكتابَ خط پر مہر لگانا۔ لاطَمَ لِطامًا و مُلاطَمَةً ہٗ: کو تھپڑ مارنا، ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ تلطّمَ وجهُهُ: چہرے کا خاکستری رنگ کا ہونا۔ تلاطَمَ والتطَمَ تِ الامواج: موجوں اور لہروں کا ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ ـــ القومُ ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ اللُطْمَة جمع لَطَمات تھپڑ۔ اللطيم: تھپڑ مارا ہوا، گھوڑ دوڑ کا نواں گھوڑا، ایک رخسار پر سفیدی والا گھوڑا، نراونٹ، یتیم لڑکا جس کے ماں باپ مر گئے ہوں، چھوٹا اونٹ جسے ستارہ سہیل کے طلوع کے وقت اپنی ماں سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور اس کا مالک اس کا کان پکڑ کر اسے تھپڑ مارتا ہے اور اپنی ماں سے روکتا ہے۔ اللطيمة جمع لطائم مشک، نافہ مشک، عطاروں کا بازار۔ المَلْطَم رخسارہ۔ الملْطِم وہ جگہ جہاں سمندر کی موجیں ٹوٹیں۔ المِلْطَم بچھانے کا چمڑہ۔ المُلَطَّم (مفع) کمینہ، بخیل کنجوس، دنی الاصل۔

لَطَمَ ہ: چہرے پر (مایوسی، آہ و زاری وغیرہ میں) دو ہتڑ مارنا ...... ہ کو تھپڑ مارنا۔ ہچکولے دینا، باہر پھینکنا۔ ـ ہ سے ٹکرانا۔ تَلاطَمَ (دشمن فوجوں کا) لڑنا، گھونسوں کا تبادلہ کرنا، ایک دوسرے پر ضربیں لگانا، جھگڑنا، جنگ کرنا، (موجوں کا) ٹکرانا، متصادم ہونا۔ اِلتَطَم: ٹکرانا، متصادم ہونا۔ لَطمة جمع لَطَمات: ضرب، چوٹ، تھپڑ، کان پر تھپڑ مارنا، ہچکولہ، دھچکا، زور کا دھکا، ہلہ، حملہ۔ لَطيم: یتیم۔ مَلْطَم رخسارہ۔ مُلْتَطَم تصادم (بالخصوص لہروں کا) ہنگامہ، شورش، بلوہ، شور و غوغا (جنگ وغیرہ کا) لڑائی بھڑائی، ہاتھا پائی۔

لطه: لَطَهَ ـَ لَطْهًا ہٗ: کو تھپڑ مارنا۔

لطو: لَطَا يَلْطُو لُطُوًّا: (بارش وغیرہ سے) کسی غار یا چٹان میں پناہ لینا۔ عوام لَطَى يَلْطِي کہتے ہیں۔

لطی: ۱۔ لَطَى يَلْطِي لَطْيًا الرجلُ: زمین کے ساتھ چمٹنا۔ لَطِيَ ـَ لَطًى الرجلُ: کو بوجھل کرنا۔ تَلَطَّى تَلَطِّيًا علی العدو: دشمن کی غفلت کا انتظار کرنا۔ اللُّطاة: قریب کے چور۔ اللَّطاة: زمین، جگہ۔ (ع ا) پیشانی یا پیشانی کا وسط۔ لَطاةُ الرجلِ: آدمی کا سامان، آدمی کے پاس جو کچھ ہو۔ کہا جاتا ہے: اَلقى بِلَطاتِه: اس نے اپنا بوجھ اتار دیا۔ المِلْطَى والمِلطاة: سر کی ہڈی اور گوشت کے مابین جھلی۔

۲۔ لَطِيَ ـَ لَطًى فلانًا بذلك: کے پاس کسی چیز کے متعلق گمان کرنا، سے غیر متفق ہونا۔

لظّ:۱۔ لَظَّ ـلَظًّا و لَظِيظًا ہُ: پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا۔ بالشیءِ: کے ساتھ ہونا۔ لَظَّاہُ: کو دھتکارنا لَاظَّ لِظاظًا و مُلاظَّةً ہُ فی الحرب: کو جنگ میں زچ کرنا۔ اَلَظَّ: اصرار کرنا۔ ـــ المطرُ: بارش کا لگاتار برسنا۔ ـ بالمکان: میں رہنا...... بالشیءِ: کے ساتھ ساتھ ہونا، کے ساتھ چمٹا رہنا۔ تَلَاظَّ القوم فی الحرب: جنگ میں لوگوں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اللَظُّ (مص): سخت طبیعت۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ لَظٌّ کظٌّ بَظٌّ: تابع مہمل ہے۔ المِلَظُّ و المِلظاظ: اصرار کرنے والا، ضدی۔

۲۔ تلَظَّظَ تلَظُّظًا ت الحیّةُ: سانپ کا سخت غصہ سے سر کو ہلانا۔

۳۔ لظلظ لظلظةً ت الحیة رأسها: سانپ کا سخت غصہ میں اپنا سر ہلانا۔ تلظلظت الحیة: سانپ کا سخت غصہ میں حرکت کرنا۔ اللظلاظ من الرجال: سختی کرنے والا درشت خو، دمزاج، خوش بیان۔ یومٌ لُظاظٌ: گرم دن۔

لظأ: اللَظَأُ: تھوڑی چیز۔

لظی: لَظِیَ یَلْظَی لَظًی تِ النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ لَظَّی تلظِیَةً النارَ: آگ کو بھڑکانا۔ تلَظَّی تِ النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ ـ فلانٌ: غصہ میں جل اٹھنا ...... ت المفازةُ: بیابان کی لو کا بھڑکنا۔ ـ ت الحیّةُ من السمّ: سانپ کا پھنپھنانا۔ اللظی: آگ یا اس کا شعلہ۔ لَظَی معرفة لظی (معرفہ کے طور پر): جہنم۔ (علم اور مونث ہونے کی وجہ سے یہ لفظ غیر منصرف ہے)۔

☉ لَظِیَ ـلَظًی بھڑکنا، شعلے کا لرزنا یا لپکنا، مشتعل ہونا، بھڑک اٹھنا، جل اٹھنا، جلنا، آگ بگولہ ہو جانا، جوش میں آنا، طیش میں آنا، شعلہ زن ہونا، بھڑکتا ہونا، بھرا ہوا ہونا، طیش، تاؤ، غصہ یا جوش سے جلنا۔ تلظّی و التَظَی: مندرجہ بالا معانی۔ لَظًی بھڑکتی ہوئی آگ، تیز شعلہ، بھڑک، جوش، اشتعال، لو، بھبوکا، شعلہ، لپٹ، غصہ۔

لعّ:۱۔ اَلَعَّ المکانُ: جگہ کا ابتدائی روئیدگی اُگانا۔ تلَعَّی: ابتدائی روئیدگی کھانا۔ ـ اللُعاع: لَعَاع کھانا۔ اللُعاعة واحد لُعَاعَة: ابتدائی روئیدگی۔ انما الدنیا لُعاعَةٌ: دنیا سبز پودے کی طرح ہے جسے بقا و دوام نہیں۔ مابقی الا لُعَاعَةٌ: صرف تھوڑی سی چیز بچی ہے۔ اللُعاعة جمع لُعاع (ن): کاسنی، زرخیزی، بہتات، دنیا۔

۲۔ اللَعّة من النساء: پاک دامن خوبصورت عورت۔

اللُعَاعَة جمع لُعَاع: گھونٹ۔ لُعَاعَةُ الإناء: برتن کا خالص حصہ۔ اللَعّاعة: بہ تکلف سُر نکالنے والا۔ مُطربٌ لَعّاعة: موسیقار جو سروں میں غلطی کرے۔ عسلٌ مُتَلَع: شہد جو اٹھانے سے پھیل جائے اور چپچپے پن کی وجہ سے نہ ٹوٹے۔

۳۔ لَعْلَعَ العظمَ و نحوهُ: ہڈی وغیرہ کو توڑنا۔ تَلَعْلَعَ: ٹوٹ جانا۔

۴۔ لَعْلَعَ الرعدُ: بادل کا گرجنا...... بالعاثر: پھسلنے والے سے لَعْ یا لَعْلَعْ یا لَعًا لکہنا (یہ تحریک پیدا کرنے کی دعا ہے)۔ اللَعْلَع (ح): بھیڑیا۔

۵۔ لَعْلَعَ السرابُ: سراب کا چمکنا۔ ـــ من الجوع: بھوک سے غمگین ہونا۔ ـ من الشیء: پریشان ہونا۔ ـ الرجلُ: تھکاوٹ یا بیماری سے کمزور ہو جانا۔ ـــ الکلبُ: پیاس کی وجہ سے کتے کا زبان لٹکانا۔ اللَعْلَع: سراب۔ اللَعْلاع: بزدل۔

۶۔ اللَعْلَع (ن): ایک حجازی درخت۔ عسلٌ مُتَلَعْلِعٌ: اٹھانے پر پھیل جانے والا شہد۔

لعب:۱۔ لَعَبَ و لَعِبَ ـلَعْبًا الصبیُّ: بچے کے منہ سے رال ٹپکنا۔ اَلْعَبَ الصبیُّ: بچے کا رال ٹپکانا۔ اللعاب: رال (منہ کی)۔ لُعاب النحل: شہد۔ لُعابُ الحیّةِ و نحوها: سانپ وغیرہ کا زہر۔ لُعابُ الشمس: سورج کی کرنیں، مکڑی کا وہ تار جو وہ آنے جانے کیلئے لٹکاتی ہے، شیطان کی ڈور۔ لُعاب السفرجل و نحوه: بہی کے دانوں سے بنائی جانے والی ایک دواء۔ اللُعابی لعاب کی، لعاب کے متعلق، لعابی۔ اللُعابیّة: پھلوں سے بنایا جانے والا مشروب، پھلوں کا رس۔ ثغرٌ مَلْعُوبٌ: رال والا منہ۔

۲۔ لَعِبَ ـلَعْبًا و لَعِبًا و لِعْبًا و تَلْعابًا: کھیلنا، مزاح کرنا، لذت یا تفریح کیلئے کوئی فعل کرنا، ایسا کام کرنا جو کوئی فائدہ نہ دے۔ ـ بکذا: کو کھیل کی چیز بنانا۔ ـ فی الامر: کام کو حقیر جاننا۔ ـــ علی القانون وغیرہ من الآت الطرب: بربط وغیرہ بجانا۔ لَعِب دوراً کہنا غلط ہے۔ مَثَّلَ دوراً کہنا چاہئے۔ اس کے معنی ہے اس نے ایک کردار ادا کیا۔ ـــ ت الریاح بالدیار: ہواؤں نے گھروں کو مغلوب کر لیا یا ان پر غلبہ پا لیا۔ لَعَّبَ: بمعنی لَعِبَ۔ لاعَبَہُ مُلاعَبَةً: آپس میں کھیلنا۔ اَلْعَبَ: بمعنی لَعِبَ۔ ـہُ: کو کھلانا یا اس کے پاس کھیلنے کی کوئی چیز لانا۔ تَلَعَّبَ و تلاعَبَ: بمعنی لَعِبَ کہا جاتا ہے: لعبت به الهموم و تلعّبت بهم غموم

اسے کھیل کی چیز بنا لیا۔ اللَعِب (مص): کھلاڑی۔ اللِعِب: کھلاڑی۔ اللُعْبَة جمع لُعَب: لَعِب کا اسم کھیل، کھیل کی باری۔ (کہا جاتا ہے: اُقْعُدْ حتی افرغ من هذه اللُعْبة: میرے کھیل سے فارغ ہونے تک بیٹھے رہو) کھیلنے کی چیز جیسے شطرنج، پتلی، انحوکہ، بے وقوف، جس سے مسخری کی جائے۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ لُعْبَةٌ: مرد جس سے کھیلا جائے۔ اللَعْبَة لَعِب کا اسم مرہ۔ اللِعْبَة: لَعِب کا اسم نوع۔ اللُعَبَة: بڑا کھلاڑی، بڑا مزاحیہ، دل لگی کرنے والا۔ اللَعّاب: پیشہ ور کھلاڑی، بہت کھیلنے، مزاح کرنے یا دل لگی کرنے والا۔ اللَعُوب جمع لَوَاعِب و لَعَائِب: ناز و انداز والی حسینہ۔ کہا جاتا ہے: جاریةٌ لَعُوبٌ: ناز و انداز والی لڑکی۔ اللِعِّيب و التَلِعّاب و التِلْعاب و التَلْعابة و التِلْعَابة و التِلِعّابة و التِلِعّاب و التِلْعِيبة و الأُلْعُبان: بہت کھیلنے، مزاح کرنے یا دل لگی کرنے والا۔ اللُعْبَة: چھوٹی گڑیا۔ الأُلْعُوبة جمع الاعیب: کھیل۔ المَلْعَب جمع مَلاعِب: کھیل کی جگہ، کھیل کا میدان۔ ملاعبُ الریاح: ہواؤں کی آمد و رفت کی جگہیں۔ کہا جاتا ہے: ترکتُہ فی ملاعب الجنّ: میں نے اسے گمنام جگہ میں چھوڑا۔ المِلْعَبَة و المُلْعِبَة: بغیر آستین کی قمیص جس کو پہن کر بچے کھیلتے ہیں۔ المُلاعِب فا۔ مُلاعِبُ ظِلِّه (ح): لمبے بازوؤں اور چھوٹی گردن والا ایک پرندہ۔

۳۔ اِسْتَلْعَبَ ت النخلةُ: کھجور کے درخت کا پہلے پھل باقی رہتے ہوئے دوبارہ شگوفہ نکالنا۔

☉ لَعَبَ و لَعِبَ ـلَعِبًا: منہ سے رال بہانا، شرابیوں یا بچوں کی طرح رال بہنا، دل لگی کرنا، ٹھٹھول کرنا۔ لَعِبَ ـ لُعْبًا و لِعبًا و لَعِبًا و تلعابًا ب. کے ساتھ کھیلنا۔ ـــ علی موسیقی کا کوئی آلہ بجانا۔ ـ ب سے کھیلنا، دل بہلانا، غیر سنجیدہ باتیں کرنا، کلول کرنا، پیار کرنا، جی بہلانا۔ ـ علی کو فریب دینا، دھوکا دے کر پھانس لینا، سے دغا بازی کرنا، بہکانا، الو بنانا، ٹھگنا۔ لعب الاوراق: تاش کھیلنا۔ لعب دوراً: پارٹ یا رول ادا کرنا۔ لعب الموسیقی: موسیقی تخلیق کرنا۔ لعب بالشطرنج: شطرنج کھیلنا۔ لعبت به الهمومُ: وہ غموں کا دل بہلاوا بن گیا، وہ غموں کی تفریح بن گیا، وہ غموں کا شکار بن گیا۔ لعب فی عقله: کا دماغ خراب کر دینا۔ لَعَّبَ ہ: کو حرکت میں لانا، دم ہلانا۔ لاعَبَ ہ: کے ساتھ کھیلنا، سے دل لگی کرنا، سے ٹال مٹول کرنا، سے مذاق کرنا۔ اَلْعَبَ ہ: کو کھلانا، کے کھیلنے کا باعث بننا۔ تلعّب: کھیلنا، شوخی

کرنا۔تَلاعَبَ ب: کے ساتھ کھیلنا، کو چھیڑنا، سے مذاق کرنا، کا مذاق اڑانا، کی ہنسی اڑانا، پر ہنسنا، کو بنانا، کو بے وقوف بنانا۔ تلاعب: چال چلنا، دغابازی کرنا۔لَعْب و لِعب و لِعِب جمع العاب: کھیل، تفریح، ہنسی، ٹھٹھا، ہنسی مذاق، دل لگی، دل بہلاوا، فرصت کا مشغلہ، ذریعہ تفریح۔لعب القمار: جوا کھیلنا، قمار بازی۔الالعاب الاولمبية: اولمپک کھیلیں(the Olympic games)۔ العاب ریاضية: ورزشیں، کسرتیں، کھیل کود، کود پھاند (athletics)۔ دوڑ کود کے مقابلے (sports)۔ العاب سِحْرِيَة: کرتب، شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی، جادو، جادوگری، فسوں گری۔اَلعابُ القُوَى: ورزشیں، کسرتیں(athletics)۔ العاب نارية: آتشبازی(fire-works)۔ ساحة الالعاب: کھیلوں کا میدان۔مُدَرِّسُ الالعاب: کھیلوں کا استاد یا معلم۔ athlatic coach, athletics instructor۔لَعِب: پر مذاق، مسخرہ، دل لگی باز، دل چسپ، خوش وخرم، شاداں وفرحان، خوش۔لَعْبَة: کھیل، فریب، دھوکا، چال۔لُعبة جمع لُعَب: کھلونا، گڑیا، کھیل، ہنسی، تضحیک کا ہدف، اضحوکہ۔لُعَبَة و لَعّاب و لِعِيب: بہت زندہ دل۔ لُعَاب: لعاب دہن، تھوک، رال۔لُعابُ الشمس: جالا، ہوائی، تاریں، مکڑی کا جالا، شیطان کی ڈور۔لُعَيبَة جمع لُعَيبات: (چھوٹی) گڑیا۔لعُوب: چنچل، نخرے باز، معاشقہ کرنے والی (عورت)، کھلنڈرا، شوخ، شوخ مزاج، زندہ دل، پر مذاق، کلول کرنے والا، ادنیٰ سا، ذرا سا، ادنیٰ سی، ذرا سی۔سال لعابه على: کیلئے اس کے منہ میں پانی آگیا۔ اُلعوبة جمع الاعيب: کھلونا، کھیل، نخرہ، ناز ونیاز، شوخی، خرمستی، مذاق، دل لگی، مکر، چال، فریب داؤں، گھات، کرتب، ہاتھ کی چالاکی۔ مَلْعَب: کھیل کا میدان، سٹیڈیم (stadium)، تھیٹر، منڈوا(playhouse)، سرکس رنگ، جمع مَلاعِب: مقابلے، کھیلوں کی آٹھیں۔ مَلْعَبة: کھلونا۔ تلاعب: (قمار بازیا سٹے باز کی)، بازی، قمار بازی، قیود سے آزاد کھیل۔مجالٌ للتلاعب: آزاد کھیل، آزاد دسترس، آزادی عمل، گنجائش، آزادی، کھلی چھٹی، حد۔لاعب: کھیلنے والا، کھلاڑی، اتھلیٹ (attlete)، جمناسٹک کا ماہر، ورزشی۔لاعبُ الجنباز: اتھلیٹ، جمناسٹک کا ماہر، ورزشی۔ملعوب جمع ملاعيب: تھوک سے ڈھکا ہوا، رال بہتا ہوا، رال ٹپکاتا ہوا، دل لگی کرنے والا، شوخی، خرمستی، چال، فریب، حیلہ، بہانہ۔ملاعب: ساتھی کھلاڑی، ہمجولی، فریبی دغاباز، مکار منتفی۔

لعث: الَعِثَ لَعَثًا: ست ہونا، سستی کرنا۔صفت اَلْعَث م لَعْثاء ج لُعْث۔

٢۔لَعْثَمَ و تَلَعْثَم فی الامر: میں پس و پیش کرنا، پر سوچنا، سے ہٹ جانا۔کہا جاتا ہے: سألتُهُ عن الشيء فلم يتلعثم: میں نے ایک بات کے بارے میں پوچھا تو اس نے فوراً جواب دیا۔ماتَلَعْثَم عن شيء: نہ اس نے دیر کی اور نہ جھٹلایا۔

○ تَلَعْثَمَ: ہچکچانا، متأمل ہونا، ہکلانا، ہکلا کر کہنا۔

لعج: لَعَجَ لَعْجًا الضربُ فلانًا: کو چوٹ کا تکلیف دینا اور سوزش پیدا کرنا۔۔۔ الشيءُ في صدره: کا سینہ میں کھٹکنا۔الحُب او الحزنُ فؤادَهُ: محبت یا غم کا کسی کے دل کو جلانا۔ لاعَجَ مُلاعَجَةً الامرُ: پر معاملہ کا سخت ہونا۔ اَلْعَجَ النارَ في الحطب: لکڑیوں میں آگ بھڑکانا۔اِلْتَعَجَ: غمگین ہونا۔ اللَاعِج (فا) جمع لَوَاعِج: جلانے والی محبت۔ اللُعْج: ہر جلانے والی چیز، چوٹ کی تکلیف جلن۔

○ لاعَجَ ہ: کو روحانی اذیت پہنچانا، کو ذہنی کوفت پہنچانا، کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا، کو مغموم کرنا، کے لئے تکلیف دہ ہونا، کو ستانا۔ لَعْجَة: تکلیف، درد، دکھ۔ لاعج جمع لَوَاعِج: سرگرم، جلانے والی (محبت)۔ لَوَاعِج: سرگرم محبت، محبت کی گرمجوشی، لگن یا دھن۔

لعذ: لَعْذَمَ في الامر: میں سستی کرنا۔۔ عن الكلام: میں حیرانی سے متردد ہونا۔کہا جاتا ہے: قرأ فما تَلَعْذَم: اس نے بلا توقف وتردد پڑھا۔کہا جاتا ہے: ما تلعذمنا شيئًا: ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ اللَعْذَمِيّ: حریص۔

لعز: لَعَزَ لَعْزًا هُ: کو دھکا دینا، مکا مارنا۔۔ ت الناقةُ فصيلَها: اونٹنی کا اپنے بچہ کو چاٹنا۔

لعس: الَعَسَ لَعْسًا هُ: کو دانتوں سے کاٹنا۔لَعُوسَ الطعامَ: کھانے کو چبانا (عوام کی زبان میں)۔کہا جاتا ہے: ماذقتُ لَعُوسًا: میں نے کوئی چیز نہیں چکھی۔ اللَعُوس جمع لَعَاوِس: تھوڑا کھانے والا، کھانے کا حریص۔(ح): بھیڑیا۔المُتَلَعِّسُ من الرجال: بہت کھاؤ۔

٢۔لَعِس لَعَسًا: ہونٹ پر خوبصورت سیاہی والا ہونا۔ صفت اَلْعَس م لَعْساء جمع لُعْس ...... تِ الشفةُ: ہونٹ پر خوبصورت سیاہی ہونا۔اللُعْسَة: ہونٹوں کا گہرا سرخ رنگ۔ الاَلْعَس من النبات: گنجان پودا۔لحمٌ مَلْعُوس: کچا سرخ گوشت۔

٣۔تَلَعْسَمَ في امره: میں دیر لگانا۔

○ اَلْعَس: سرخ ہونٹوں والا۔

لعص: الَعِصَ لَعَصًا الامرُ: کام کا دشوار ہونا۔ تَلَعَّصَ علينا: (ہم پر) بہت مشکل ہونا۔

٢۔لَعِصَ لَعَصًا الرجُلُ و ۔ الرجلُ في الاكل و الشرب: کھانے پینے میں بہت حریص ہونا۔صفت لَعِصٌ۔

لعط: الَعَطَ لَعْطًا: جلدی کرنا۔

٢۔لَعَطَ لَعْطًا ت الابلُ: گھروں کے اردگرد اونٹوں کا چرنا۔۔۔ ت الماشيةُ النباتَ: جانور کا پودے کھا جانا۔اِلْتَعَطَ تِ الابلُ: اونٹوں کا دور نہ جانا بلکہ گھروں کے اردگرد چرنا۔المَلْعَط جمع مَلاعِط: گھروں کے اردگرد قریب واقع چراگاہ۔

٣۔لَعَطَ لَعْطًا هُ: گردن پر داغنا۔۔ هُ بابيات: کی شعروں میں ہجو کرنا۔۔۔ ہ بسهم او بعين: کو تیر مارنا یا نظر لگانا۔ اللَعْط (مص): الاَلْعَاط کا واحد: کالے یا زرد خطوط (لکیریں) جو عورت اپنے چہرہ پر کھینچتی یا بناتی ہے۔ اللُعْطَة: لَعَط کا اسم کالی یا زرد لکیر جو عورت اپنے رخسار پر بناتی ہے۔بکری کی گردن کا سیاہ داغ، شکرے کے چہرے کی تیرگی۔ اللَعْطا: گردن پر سیاہ داغ رکھنے والی بکری۔

٤۔لَعَطَ لَعْطًا هُ بحقه: کے حق میں ٹال مٹول کرنا۔

٥۔اَلْعَطَ الرجُلُ: مرد کا پہاڑ کے دامن میں چلنا۔اللُعْط جمع اَلْعَاط: پہاڑ یا دیوار کا پہلو۔لُعْط الرمل: بغل۔ لُعْطُ اجبل: پہاڑ کا دامن۔

لعف: اَلْعَفَ و تَلَعَّفَ الاسدُ او البعيرُ: شیر یا اونٹ کا بار بار آنکھ کھولنا اور بند کرنا، شیر کا غصہ میں آکر حملہ کیلئے تیار ہونا، دبک کر بیٹھنا۔

لعق: ا۔ لَعِقَ لَعْقًا و لُعْقَةً و لَعْقَةً العسلَ و نحوهُ: شہد وغیرہ کو زبان یا انگلی سے چاٹنا۔صفت لاعِق جمع لَعَقَة۔ کہا جاتا ہے لَعِقَ فلانٌ إصبعهُ: وہ مر گیا۔ لَعَّقَ و اَلْعَقَ فلانًا العسلَ: کو شہد چٹانا۔کہا جاتا ہے رجلٌ وَعِقٌ لَعِقٌ: لالچی مرد۔ اللَعْقَة (مص): اسم مرۃ۔کہا جاتا ہے: "في الأرض لعقةٌ من ربيعٍ: زمین میں تھوڑے سے سبز پودے ہیں۔ اللُعْقَة (مص): چمچہ بھر، چٹکی بھر، تھوڑی سی چاٹنے کی چیز۔ اللُعَاق: چاٹی ہوئی چیز کا منہ میں بقیہ۔ اللَعُوق: چاٹنے کی چیز جیسے شہد، دوا وغیرہ، تھوڑا توشہ۔کہا جاتا ہے ما مَعَنا الالعوقٌ: ہمارے پاس تھوڑی سی چیز ہے۔اللَعُوقة: جلد بازی سے شروع کیا ہوا کام۔ المِلْعَقَة جمع مَلاعِق: چمچہ، قاشق۔

۲۔ اَلْعَقَ النساجُ الثوبَ: ہلکے سوت کا کپڑا بُننا۔
۳۔ اُلْتُعِقَ لونُهُ: رنگ کا بدل جانا۔
○ لَعُوق: شہد یا شربت میں حل کیا ہوا سفوف۔ مِلْعَقَة شای: چائے کا چمچہ۔

لعل: لَعَلَّ: حروف مشبہ بالفعل سے ہے۔ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے اور توقع کا معنی دیتا ہے۔ جیسے: لَعَلَّ الحبیب قادمٌ: شاید محبوب آجائے۔ خوف کے معنی کیلئے بھی آتا ہے، جیسے: لَعَلَّ الشِدَةَ نازلةٌ: ممکن ہے سختی واقع ہو، ایسا امکان بھی ظاہر کرتا ہے جس کے متعلق پختہ یقین نہ ہو، اس کا ل حذف کر کے عَلَّ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس پر ما الکافۃ بھی لاتے ہیں۔ اس صورت میں اس کا عمل رک جاتا ہے جیسے: لعلما اَضاءَت لك النارُ: شاید آگ تمہارے لئے روشن ہو، جب اس کے ساتھ یاء متکلم ہو تو اکثر نون الوقایہ سے مجرد ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: لَعَلِّی و لَعَلَّنِی۔
اللَعْل: ایک قیمتی پتھر (فارسی)

لعم: اللَعَم: لعاب۔
۲۔ لَعْمَظَ لَعْمَظَةً و لِعماظاً اللحمَ: گوشت کو ہڈی سے نوچنا۔ اللَعْمَظ جمع لَعامِظة و لَعامِیظ: حریص، شہوت پرست۔ رجُلٌ لَعْمَظَةٌ: بسیار خور لالچی مرد۔ اللُعْمُوظ جمع لَعامِظة و لعامِیظ: حریص۔ بن بلایا مہمان، روٹی پر کام کرنے والا۔ اللُعْمُوظ جمع لَعامِظ و لَعامِیظ: حریص، شہوست پرست۔

لعن: لَعَنَ ـَـ لَعْناً فلاناً: پر لعنت کرنا، کو شرمندہ کرنا، گالی دینا، دھتکارنا، نیکی سے دور کرنا...... نفسَهُ: اپنے آپ پر لعنت کرنا۔ کہنا، مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ لَعَّنَ تلْعِیناً هُ: کو عذاب دینا۔ لاعن لِعاناً و ملاعَنَةً ہ: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ — الحاکمُ بینهما: حاکم کا دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ تَلَعَّنَ و تلاعَنَ القوم: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ اِلْتَعَنَ: اپنے آپ پر لعنت کرنا...... القوم: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ اللاعِن (فا): لعنت کرنے والا۔ امرٌ لاعِنٌ: باعث لعنت کام۔ اللاعِنَة: سڑک کا درمیانی حصہ، سڑک، راستہ، شاہراہ۔ اللَعْن (مص): لعنت۔ اَبَیْتَ اللَعْنَ: زمانہ جاہلیت میں بادشاہ کا سلام، یعنی اے بادشاہ تو نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے تو لعنت کا مستحق ہو۔ اللُعْنَة: جس پر لوگ ہمیشہ لعنت کریں، جو لوگوں پر بہت لعنت کرے۔ اللَعْنَة جمع لِعَانٌ و لَعَنات: لَعَنَ کا اسم مرۃ۔ اللَعْن: لعنت، عذاب، دکھ، ایذا۔ اللَعَان و اللَعَانِیَة: لعن کے اسم۔
اللَعَّان: بہت لعنت کرنے والا۔ اللَعِین: ملعون، لعنت کیا ہوا، نظر انداز کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بدبخت، منحوس، مسخ شدہ، رسوا، ہلاک شدہ، شیطان، کھیت میں کھڑا کیا ہوا ڈراوا (دھوکا)، ڈراونا پتلا جو پرندوں اور جانوروں کو بھگانے کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے۔ (Scare-crow)۔ اللَعِینَة: ملعون کا اسم۔ جیسے مرھون کا اسم رَهِینَة ہے۔ المَلْعَنَة جمع مَلاعِن: جائے رفع حاجت، وسط راستہ۔ المَلْعُون جمع ملاعین (مفع): لعنت کیا ہوا، پیٹ کا درد جو گھوڑوں کی موت کا باعث ہوتا ہے۔
○ لاعَنَ: تہمت لگاتے ہوئے قسم کھانا۔ لِعان: الزام یا تہمت کی قسم یا حلفیہ بیان جو خاوند یا بیوی کے زنا کے ارتکاب کے متعلق دیا جاتا ہے۔ لعنة الله علیه: اس پر خدا کی لعنت ہو۔ مُتَلاعِن: ایک دوسرے کو پھٹکارنے والا، مخالف، مخالفانہ، معاندانہ، مخاصمانہ۔

لعو: ۱۔ تَلَعَّی العسل: شہد کا گاڑھا ہونا۔
۲۔ اللُعاعَ ای اوَّلَ النباتِ: ہریاول (یا خوشبودار پودے) اکٹھا کرنا۔ اَلْعَتِ الارضُ: زمین کا پہلی سبزی اُگانا۔
۳۔ اللَاعِی: وہ جسے ادنی سی چیز سے ڈر لگے۔ اللاعیة: لائی کا مؤنث (ن): ایک پیلے رنگ کے پھولوں والا خوشبودار پودا۔ اللَعَا: حریص، لالچی، ٹھوکر کھانے والے کو کہتے ہیں۔ لَعًا لك: یعنی اللہ تجھے اٹھائے اور کھڑا کرے، یہ اس کے حق میں دعا کے طور پر کہا جاتا ہے اور بددعا میں کہتے ہیں: لا لَعًا لَكَ: اللہ تجھ کو نہ اٹھائے اور نہ کھڑا کرے۔ اللَعَاة جمع لِعَاء و لَعَوات (ح): کتیا۔ اللَعْو جمع لِعَاء: بدخلق، کمینہ، لالچی۔ اللَعْوَة جمع لِعَاء و لَعَوات: لَعْو کا مؤنث (ح): کتیا، سرپستان کے اردگرد کی سیاہی۔ کَلْبَة او ذِئبَة لَعْوَة: کتیا یا مادہ بھیڑیا جو اس حد تک لالچی ہو کہ کھانے کی چیز پر لڑائی کرے۔ لَعْوَة الجوع: بھوک کی شدت۔ اللَعْوَة: سرپستان کے اردگرد کی سیاہی۔ الالْعاء (ع ا): انگلیوں کے پورے۔
۴۔ لَعْوَق: کام میں تیزی اور پھرتی کرنا۔ اللَعْوَق: کم عقل۔

لغب: ۱۔ لَغَبَ ـَـ و لَغُبَ ـُـ لَغْباً و لَغوباً و لُغوباً و لَغِبَ ـَـ لَغَباً: بہت تھک جانا۔ لَغَّبَ السیرُ فُلاناً: چلنے کا کسی کو بہت تھکا دینا۔ — دابَّتَهُ: جانور پر بوجھ لاد کر تھکا دینا، جانور کو تھکا ہوا پانا۔ اَلْغَبَ السیرُ فُلاناً: چلنے کا کسی کو بہت تھکا دینا۔ — فُلاناً: کو تھکانا۔ تَلَغَّبَ الدابَّةَ: جانور کو تھکا ہوا پانا۔ — الانسانَ او الحیوانَ: انسان یا حیوان کو دور بھگا دینا۔ — سیرَ القوم: لوگوں کو لے کر چلتا رہنا یہاں تک کہ وہ تھک جائیں۔ — السیرُ فلاناً: چلنے کا کسی کو بہت تھکا دینا۔ کہا جاتا ہے: تَلَغَّبَتْهُم الاسفارُ و تَلَغَّبَتْ بهم القفارُ: سفروں نے انہیں بہت تھکا دیا یا انہیں ان کے ملک سے دور کر دیا۔ اللاغِب (فا) جمع لُغَب: ضعیف، کمزور۔ کہا جاتا ہے: اَتانا ساغبا لاغِباً: وہ ہمارے پاس بھوکا اور تھکا ماندہ آیا۔ اللاغِبَة جمع لَواغِب: لاغب کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے: ریاحٌ لواغِبُ: کمزور ہوائیں۔ اللَغْب و اللَغُوب: کمزور، بے وقوف۔ اللَغب (مص): کہا جاتا ہے: اُخذ بلَغَبِ رقبته: اس نے اسے آلیا۔ اللَغابَة و اللُغُوبة: حماقت، کمزوری۔
۲۔ لَغَبَ ـَـ لَغْباً الکلبُ فی الاناء: کتے کا برتن میں منہ ڈالنا۔
۳۔ لَغَبَ ـَـ لَغْباً القومَ: لوگوں سے جھوٹی بات کہنا۔ — علیهم: میں فساد ڈالنا۔ اللَغْب: کلام فاسد، خراب پر، سهمٌ لَغْبٌ: خراب ترشا ہوا تیر۔ اللَغْب و اللَغِب و اللَغِیب: خراب پر۔ کہا جاتا ہے: اُكْفُفْ عنّا لغبَك: ہم سے اپنی بری باتوں کو روکے رکھو۔ اللُغاب: خراب ترشا ہوا تیر۔
○ لُغُوب و لَغوب: تھکن، ضعف، کمزوری، سستی، ناتوانی، تکان، الکس، ماندگی، محنت مشقت، تکلیف، مصیبت، سخت محنت۔ لاغِب جمع لُغَب: تھکا ماندہ، ضعیف، نقیہ، ناتواں مضمحل۔

لغد: لَغَدَ ـَـ لَغْداً الإبلَ العَوائِدَ: اونٹوں کو سیدھے راستہ پر لانا۔ — هُ عن كذا: کو سے روکنا۔ — فلاناً: کے لُغْدُود پر مارنا۔ اللُغْد جمع اَلْغاد و اللُغْدُود و اللِغْدِید جمع لَغادِید: ٹھوڑی کے نیچے حلق کا گوشت، حلق کا کوا، کان کی لو، کان کے اندرونی حصہ کا زائد گوشت، کہا جاتا ہے: عِلْجٌ من الاوغاد ضخم الالغاد: مضبوط جسم، کم عقل کی، ٹھوڑی کے نیچے کا گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ المُتَلَغِّد: غصہ سے بھرا ہوا۔ سخت غضبناک۔
○ لُغْد جمع اَلْغاد و لُغود و لُغْدُود جمع لَغَادِید: گلے کے مقام پر اور ٹھوڑی کے نیچے کا گوشت۔

لغز: لَغَزَ ـَـ لَغْزاً الشیءَ: کی شکل بگاڑنا۔ — فی یمینه: قسم کھانے میں دھوکا دینا۔ — و اَلْغَزَ الیربوعُ جُحرَهُ: جنگلی چوہے کا اپنے بل کو پیچ دار کھودنا۔ — فی الکلام و اَلْغَزَ الکلامَ: پہیلیاں بجھوانا، گول یا پہلودار بات کہنا، مبہم بات کہنا، لفظی ہیر

پھیر کرنا۔لاغَزَ مُلاغَزَۃً ہٗ: سے پہیلی جیسی بات کرنا۔
اللُّغز و اللَغز و اللُغَز: چوہے یا گوہ کا بل۔ جمع
اَلْغاز من الکلام: پہیلی، معما، چیستان۔الاَلْغاز:
پیچ دار راستے۔المِلْغاز: چغل خور، تہمت لگانے والا۔
اللُغَیزاء و اللُغَیزٰی و الاُلْغُوزۃ من الکلام:
پہیلی، معما، چیستان۔المُسْتَغَز من الکلام: پیچ دار
بات، پیچیدہ اور مشکل بات۔

لغز ۞ لغز -لغزًا، ولاغزَ و اَلغز: پہیلیاں بجھوانا، گول یا
پہلودار بات کرنا، مبہم بات کہنا، لفظی ہیر پھیر کرنا۔لُغُز
جمع اَلْغاز: پہیلی، معما، چیستان، پیچیدہ بات، ایسی
بات جو سمجھ میں نہ آئے، راز۔لُغْزُ الکلمات
المتقاطعۃ (ٹکراتے ہوئے لفظوں والا) معمہ،
لفظی چوکور (crossword puzzle)۔مُلْغَز:
حیران کن، الجھن میں ڈالنے والا، معما سا خفیہ،
پراسرار، تاریک، غیر واضح، دھندلا سا، مبہم، ذومعنی،
مشتبہ۔

لغط: لغط -لَغْطًا و لِغِیطًا الحمامُ او القطا: کبوتر یا
بھٹ تیتر کا غوں غوں کرنا۔لَغْطًا و لِغاطًا و لَغَطًا
و اَلْغطَ القومُ: شور کرنا۔اللَغط (مص)۔
دروازے سے آگے کا صحن و اللَغط جمع اَلْغاط:
آواز، شور وغل، یا مبہم نہ سمجھ میں آنے والی آوازیں۔

لغط ۞ لَغطًا و لِغاطًا: غوغائی ہونا، شور مچانے والا
ہونا، شور وغل برپا کرنا، چلانا، چیخ و پکار کرنا۔لَغْط و
الَغط (مندرجہ بالا معنی)۔لَغْط و لَغَط جمع اَلْغاط:
آواز، شور وغل، شور وغوغا، غل غپارہ، چلانا ــــ عن:
پر ماتم یا کیلئے ماتم۔

لغف: لغفَ -لَغْفًا الرجلُ او الاَسدُ: آدمی یا شیر کا
تیز نظروں سے دیکھنا۔لَغِفَ -لَغْفًا الاناءَ: برتن
چاٹنا ــــ الادامَ: روٹی کے ساتھ سالن، چٹنی، اچار،
مسالہ وغیرہ کو لقمہ بنانا۔لاغَفَ مُلاغَفَۃً ہٗ: کو چومنا،
سے دوستی کرنا۔اَلْغَفَ: تیز نظر سے دیکھنا، چوروں کے
ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تیز دوڑنا ــــ فُلانًا الادامَ: کو سالن
کے لقمے دینا۔اللُغْفَۃ: لقمہ۔اللَغِیف جمع لُغَفاء:
چوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے والا، ان کے کپڑوں کی
حفاظت کرنے والا، مگر ان کے ساتھ چوری نہ کرنے
والا، آدمی کے خاص لوگ۔اللَغِیفَۃ: ایک قسم کا کھانا۔
المُلغَفَۃ: چوروں کا گروہ۔
۲۔الغفَ ہٗ: سے برا سلوک کرنا، اور اس پر ظلم کرنا ــــ
علیہ: سے بہت گندی باتیں کرنا۔
۳۔اللَغْلَغَۃ: کلام میں لکنت۔

لغم: لغمَ -لَغْمًا البعیرُ: اونٹ کا جھاگ ڈالنا۔
ہٗ: کا منہ ناک اور اردگرد چومنا ــــ و لَغَمَ فُلانًا
بالطیب: کے منہ ناک پر اور اردگرد خوشبو لگانا۔تلغّم
بالطیب: اپنے ناک منہ اور اردگرد خوشبو لگانا ــــ
القومُ بالکلام: بات کرتے ہوئے اپنے مونہوں،
ناکوں اور اردگرد کو حرکت دینا۔ت الغنمُ بالعشب
و الشراب: بھیڑ بکریوں کا تر ہونٹوں والی ہونا (گھاس
پانی سے)۔المَلْغَم: تھوڑی سی خوشبو، زبان کی رگیں۔
اللُغام: اونٹوں کے مونہوں کی جھاگ۔لعاب (دہن)۔
اللَغْماء: سفید منہ والی بکری۔المَلْغَم جمع
مَلاغِم: منہ ناک اور ان کا اردگرد۔

لغم ۞ لغمَ ہٗ: میں سرنگ لگانا، بارودی سرنگیں بچھانا۔لَغَّم
و لَغَم جمع الغام: سرنگ (بارودی)۔الغم و الغام:
سرنگیں بچھانا۔ملغَم: پارہ کے ساتھ آمیزش کرنا۔
لُغام: جھاگ، کف۔مِلغام: امتزاج، امیزش۔
۲۔لغم -لغمًا الرجلُ: یقینی خبر نہ دینا۔لغم -لغمًا و
لَغَمًا: کے متعلق غیر یقینی خبر دریافت کرنا۔اللَغیم:
راز، بھید۔
۳۔لغم -لَغْمًا الارضَ او الحجرَ: زمین یا پتھر میں
سرنگیں بچھانا۔لُغْم جمع اَلغام: بارودی سرنگ، چھوٹا
سا گڑھا جس میں بارود یا ڈائنامیٹ رکھا جاتا ہے جو
پھٹ کر اس جگہ کو جسے اڑانا مقصود ہوتا ہے تباہ کر دیتا
ہے۔اللُغمُ الصوتی: بارودی سرنگ جس کے
ساتھ آواز ریکارڈ کرنے کا آلہ ہوتا ہے، اور جب کوئی
بحری جہاز اس کے قریب آئے تو وہ اسے بھک سے اڑا
دیتی ہے۔لُغمُ الضغط: دباؤ کی بارودی سرنگ، جو
پانی کے دباؤ سے پھٹ جاتی ہے، جسے گزرتے وقت
بحری جہاز پیدا کرتا ہے۔
۴۔اَلْغمَ الذھبُ و ماشابھہ من کل جوھر مذاب:
سونے وغیرہ کی پارہ میں آمیزش کیا جانا۔صفت
مُلغَم۔اِلتغم الذھبُ: پارہ سے مخلوط ہونا۔

لغن: اِلغانّ النبتُ: نباتات کا گنجان و دراز ہونا۔ــ تِ
الارضُ: زمین کا بہت گھاس والی ہونا۔اللُغُن:
جوانی کا جوش۔

لغو: لغا یلغو لَغْوًا بکذا: کچھ بولنا۔لَغِیَ یَلْغٰی
لَغًی بالامر: کا شوقین ہونا ــــ ت الطیرُ
باصواتھا: پرندوں کا گانا۔اِستَلغی فلانًا: سے
گفتگو کرنا، اسکی زبان سننا۔اللَغا (مص): آواز۔
اللُغَۃ جمع لُغًی و لُغات و لُغُون: ہر قوم کا اپنا مصطلح
کلام، بولی، زبان، نسبت کی صورت میں لُغَوِی۔
علم اللُغَۃ: مفردات کی حالتوں کو جاننے کا علم۔
عِلمُ اللُغَۃ کا اطلاق علوم عربیہ کی تمام قسموں پر بھی
کیا جاتا ہے۔کُتُبُ اللُغَۃ: لغت کی کتابیں، جنہیں
معجمات و قوامیس بھی کہا جاتا ہے۔معجمات کا واحد معجم اور
قوامیس کا واحد قاموس ہے، ڈکشنریاں۔اھلُ اللُغَۃ:
اہل زبان، شاید لُغَۃ کا لفظ لوگوس سے ماخوذ ہے، جس
کے معنی کلمہ یعنی لفظ ہے۔اللَغْو: کتے کا بھونکنا۔اللَغاۃ:
آواز۔اللَغوٰی: قطا کا شور۔
۲۔لغا یلغو لَغْوًا الشیءُ: چیز کا باطل ہونا۔الرجلُ:
ناکام ہونا ــ عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا۔
لَغْوًا و لغا یَلْغٰی لَغْوًا و لَغِیَ یَلْغٰی لَغًی و لَغْیَۃً
و لاغِیَۃً و مَلْغاۃً فی قولہ: میں غلطی کرنا، بے سوچے
سمجھے بولنا۔کہا جاتا ہے ھُم یَلْغُون فی الحساب:
وہ حساب میں غلطی کرتے ہیں۔لاغَی مُلاغاۃً
الرجلَ: سے مذاق کرنا۔اَلْغَی الشیءَ: کو باطل
کرنا، کو کالعدم کرنا ــــ فُلانًا: کو محروم کرنا، کو ناکام
بنانا، کو مایوس کرنا۔اللاغِیَۃ (مص): بیہودہ کلام،
جس پر بھروسہ نہ کیا جائے۔کَلِمَۃٌ لاغِیَۃ: قبیح کلمہ۔
اللَغا: بے کار، ناکارہ، فضول چیز، بات وغیرہ جس پر
بھروسہ نہ کیا جائے۔اللَغْو: کلام وغیرہ جس پر بھروسہ
نہ کیا جائے۔(کہا جاتا ہے تکلّم اللغو و اِشتَغل
باللغو: اس نے ناقابل اعتبار بات کی اور وہ ناقابل
اعتبار کاموں میں مشغول ہوا) حلف میں گناہ۔
اللَغْوٰی: ناقابل اعتبار بات وغیرہ۔کہا جاتا ہے:
اِسْمَعْ لَغواھم و لا تخف طَغْواھُم: ان کی
ناقابل اعتبار باتیں سنو اور ان کے حد سے تجاوز سے نہ
ڈرو۔
۳۔لغِیَ یَلْغَی لَغًی بالماءِ: بہت پانی پی کر بھی سیر نہ
ہونا ــ بالشیءِ: کے ساتھ رہنا، جدا نہ ہونا۔

لغا ۞ لغا -لَغْوًا: کہنا، بولنا۔لغا -لَغْوًا و لَغِیَ -لَغًا و
لاغِیَۃً و مَلْغاۃً: بیہودہ گوئی کرنا، بات کرتے ہوئے
غلطیاں کرنا۔اَلْغٰی ہٗ: کو بے اثر کرنا، کو غیر موثر کرنا،
کو کالعدم قرار دینا، کو منسوخ کرنا، ختم کرنا، کو خارج
کرنا، کو موقوف کرنا، (اجازت قرارداد وغیرہ) واپس
لینا۔لَغْو: بیہودگی، حماقت، احمقانہ گفتگو، احمقانہ
باتیں، کالعدم، غیر نافذ، غیر موثر، غلطی، قواعد صرف و
نحو کے خلاف زبان۔لُغَۃ جمع لُغات: زبان، (کسی
علاقہ یا جماعت کی) خاص بولی، بولی، محاورہ، ملکی
زبان، عجیب زبان، غلط ملط بولی، کرخنداروں
(وغیرہ) کی بولی (مخصوص پیشے کی) بولی۔لفظ، اظہار،
بیان، اصطلاح۔اللُغَۃ: معیاری، مستند، ٹکسالی
عربی۔لُغَۃ اجنبیۃ: غیر ملکی زبان۔لُغَۃ عامیۃ:
عوامی زبان۔لُغَۃ الکتابۃ: کتابی یا ادبی زبان۔لُغَۃ

المُحادثة: عامیانہ یا عام بول چال کی زبان۔لُغَۃُ
المِهنَة: پیشہ ورانہ بولی، بازاری بولی۔لُغَۃُ المُوَلَّد.
مادری زبان۔اهلُ اللُّغَة ماہر لسانیات، لغت
نویس۔علمُ اللُّغَة: لغت نویسی، لسانیات، زبان
دانی سے متعلق علم، زبان دانی۔لُغوۃ: (کسی علاقے یا
جماعت کی) خاص بولی، بولی، محاورہ، ملکی زبان۔
لُغَوِیٌ: زبان دانی سے متعلق، لسانیاتی، لغت نویسی
سے متعلق، ماہر لسانیات، لغت نویس، ماہر السنہ۔
لُغَویات: زبان کے معاملات۔الغاء: خاتمہ، انسداد،
منسوخی، تنسیخ، اخراج، کالعدم قرار دینا، منسوخ کرنا،
تنسیخی حکم دینا۔لاغٍ: منسوخ، کالعدم، غیر موثر، قانوناً
بے ضابطہ یا بے اثر۔لاحِب: قواعد زبان کی غلطی، غیر
صحیح الفاظ کا استعمال۔ملغی: منسوخ، کالعدم، قانوناً
بے ضابطہ یا بے اثر، جس کی مدت ختم ہوگئی ہو، ممنوعہ،
ناقابل ذکر، برائے نام، یونہی سا، بہت چھوٹا۔
لف: الَّلفّ۔لَفّا الشيء: کو لپیٹنا، شامل کرنا، جمع
کرنا......المیتَ في اكفانه: میت کو کفن میں
لپیٹنا۔الکتیبتین: جنگ میں لشکر کے دو دستوں کو
ملانا۔في الأكل: تمام قسم کی خوراک ملا لینا۔اِن
اكلَ لفَّ و ان شرب اشتَفّ: وہ کھانے لگے تو
تمام قسم کھانے ملانے لگا پینے لگے تو برتن کا سارا پانی پی
لے گا۔الشيءَ بالشيء: چیز کو چیز سے ملانا
جوڑنا۔ت الاشجارُ: درختوں کا گنجان ہونا۔
اللفّة: پگڑی لپیٹنا (عوامی زبان میں)۔لَفّا و
لَفَفًا: پُر گوشت رانوں والا ہونا صفت اَلَفّ م لَفّاء
جمع لُفّ۔لَفَّفَ: بمعنی لَفّ. تشدید مبالغہ کے
لئے ہے۔یعنی خوب لپیٹنا۔لافَ الصقرُ الصیدَ:
شکرے کا شکار پر جھپٹ پڑنا اور اسے پاؤں کے نیچے
دبوچ لینا۔کہا جاتا ہے: لافَفْنا القومَ: ہم لوگوں میں
گھل مل گئے۔اَلَفَّ الطائرُ راسَهُ: پرندے کا اپنے
سر کو بازوؤں میں کر لینا۔الرجلُ راسَهُ: اپنے سر کو
جبہ میں چھپا لینا۔تلَفَّفَ في ثوبه: کپڑے میں
لپٹنا۔علیه القومُ: قوم کا کسی پر جمع ہونا۔تلافَّ
القومُ: آپس میں ملنا۔اِلتَفَّ في ثوبه: کپڑے میں
لپٹنا۔علیه القومُ۔ قوم کا کسی پر جمع ہونا۔تلافَّ
القومُ: آپس میں ملنا۔اِلتفَّ في ثوبه: کپڑے میں
لپٹنا۔علیه القومُ: قوم کا کسی پر جمع ہونا۔الشيءُ:
اکٹھا اور گاڑھا ہونا۔النباتُ: نباتات کا گنجان اور
گھنا ہونا۔لهٗ علی حنقٍ: سے غضبناک ہو کر لپٹنا۔
اللفّ (مص): کہا جاتا ہے: جاءوا بلفهم: وہ
ملے جلے لوگوں کے ساتھ آئے۔جاء القومُ و من
لفَّ لفّهم: لوگ اور وہ افراد آئے جن کا ان سے
تعلق ہے یا ان میں شمار ہوتے ہیں۔روضةٌ لفٌّ:
گنجان درختوں والا، گنج۔اللِّف جمع اَلفاف و
لُفوف: پارٹی یا گروہ جمع شدہ لوگ۔ادھر ادھر سے جمع
کیا ہوا، گنجان باغ۔روضةٌ لِفٌّ و لِفّة: گنجان
درختوں والا کنج، کہا جاتا ہے جاء القوم و من لفّ
لِفهم او لُفّهم: وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ آئے۔
جاءوا الفافًا: وہ مخلوط گروہ کی شکل میں آئے۔
اللفّة: پگڑی (عوام کی زبان میں)۔روضة لفّة:
گھنے پودوں والا باغیچہ۔اللفَف: پٹھے کا مروڑ یا کھچاؤ،
زیادہ اور ملا جلا کھانا کھانا، ادھر ادھر سے جمع کی ہوئی
چیز۔اللفافة جمع لفائف: لپیٹنے کی چیز، دل کی اوپر کی
چربی، سگرٹ۔اللفیف: جھنڈ دار اور گھنے درخت،
مخلوط لوگوں کا گروہ عظیم۔طعامٌ لفیف: مخلوط کھانا۔
کہا جاتا ہے هو لفیفُ فلانٍ: وہ فلاں شخص کا
دوست ہے۔جمع لُفَفٌ: ہجوم، انبوہ۔جاء القومُ
بلفیفهم: لوگوں اپنے آدمیوں کے ساتھ آئے جن
میں مختلف قبائل کے لوگ بھی شامل تھے۔......جمع
اَلفاف: فوجی دستوں کا مجموعہ۔اللفیفة جمع لفائف:
مجموعہ، سگرٹ، اونٹ کی پیٹھ کا گوشت۔الأَلَفّ م لَفّاء
جمع لُفّ: لوگوں سے بھری ہوئی جگہ، کلائی کی ایک
رگ، صاف گفتگو نہ کر سکنے والا، کام میں سست، ملے
ہوئے ابروؤں والا۔روضة لفّاء: گھنے پودوں کا
کنج۔فخذٌ لفّاء: پر گوشت ران یا ٹانگ۔
التلافیف: گنجان گھاس......من الامعاء و
الدماغ (طب): چکر دار آنتیں یا انتڑیاں۔
المَلَفّ: مصدر میمی، دعویٰ کی دستاویزات کی فائل،
مسل (File)۔المِلَفّ: لحاف، کمبل، اوڑھنے کی
چیز......في اصطلاح علماء الكهربائية: کوئل
(coil)، کنڈل، لچھا، انٹی، ڈور کا گولہ، بجلی کا تار، لپٹی
ہوئی سلاخ، پھرکی، چرخی۔المِلفاف: لحاف، لپیٹنے
کی چیز، کمبل۔المَلفوف: واحد مَلفوفة (ن): کرم
کلہ، گوبھی۔
۲۔لَفَّ۔لَفّا هُ حقّهُ: کا حق روکنا۔
۳۔لَفلَفَ: گفتگو میں ہکلانا، گفتگو میں درماندہ ہونا، خوب
اچھی طرح کھانا......في ثوبه: کپڑے میں لپٹنا۔
......القضیّة: مقدمہ پر غور کرتے ہوئے اسے پوشیدہ
رکھنے اور اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا
حکم دینا۔تلعفلَف بثوبه۔ کپڑے میں لپٹنا۔
اللَفلَف و اللّفلاف: کمزور......و المُلفلف
کلام میں عاجز و درماندہ

○ لَفَّ۔لَفّا ہ: کو لپیٹنا، تہ کرنا، کو چکر دینا، لچھا بنانا،
کنڈل بنانا، پرتا گا لپیٹنا۔ہ علی: کو پر لپیٹنا، کو
چرخ پر لپیٹنا۔ہ حول: کو کے گرد لپیٹنا، کو کے گرد بل
دینا۔ہ في/ب: کو میں بند کرنا، کو کے ساتھ ملفوف
کرنا، کو سے ڈھکنا، کو سے باندھنا، کو میں لپیٹنا۔ہ
ب: کو سے جوڑنا، ملانا، کو کے ساتھ منتھی کرنا۔گھنا
ہونا، ڈھک جانا، پھنسا ہوا، انبوہ کثیر بنانا۔علی
سے مسلسل ملاقاتیں کرنا، کے چکر لگانا، کے پاس جانا۔
ہ: کوئی کام کرنے لگنا، ادھر ادھر سے، پھیرا لگانا،
ٹامک ٹوئیاں مارنا، اصل معاملہ سے دور رہنا، بات اڑا
دینا۔لفّ لفّهُ: بالکل دوسرے کی طرح کرنا، اسی قسم کا
ہونا، اسی قسم سے متعلق ہونا۔لفَف: مضبوطی سے
لپٹنا۔تلفّف في: میں لپٹنا، خود کو سے ڈھک لینا،
اِلتفّ۔بمعنی تلفف۔نیز اِلتفّ: لپٹنا، تہ ہونا،
چکر کھانا، گھومنا، بل کھانا، بل کھاتے ہوئے چلنا،
(گاڑی وغیرہ) کا موڑ مڑنا، مڑنا۔حول: کے گرد
جمع ہونا۔ب: کو بکسوا لگانا، آنکڑا لگانا، بند کرنا، پکڑنا،
کو لفافے میں بند کرنا، کا احاطہ کرنا، کو حلقے میں لینا، کو
گھیرنا، کا محاصرہ کرنا، کو شوق سے قبول کرنا، کو آغوش
میں لینا۔لَفّ: چکر دار، کنڈلی دار، پیچدار، لچھے دار،
لپیٹنا، تہ کرنا، جل، پھندا، جھانسا، چکر، حیلہ، بہانہ،
ٹالنے کی ترکیب، داؤ، پیچ، چال، عذر، معذرتیں،
اعتذارات جمع لُفاف۔ پہننے یا باندھنے کے کپڑے،
اَللّفّ و الدَّوَرانُ: پھیرے اور حیلے بہانے۔لف و
نشر: تہ کرنا اور کھولنا، پیچیدگی اور ارتقاء (مبالغہ آمیز
تحریر یا تقریر میں)۔من غیر لف: خرابی بسیار کے
بغیر، کسی تقریب کے بغیر۔لِف جمع اَلفاف: گھنے اور
گنجان درخت۔الفاف: درختوں کا جھنڈ، جھاڑ
جھنکاڑ، بڑے درختوں کے سایہ میں اگی ہوئی
جھاڑیاں، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں، چھوٹی چھوٹی زیر
درختی۔لفّة جمع لفّات: موڑ، دور، گردش، چکر، دوری
حرکت، کنڈل، پیچ، پیچا، برقی تار کا لچھا، ڈوری، رسی،
دھاگا، بل دار تمباکو، پتوں کا گچھا جو ایک ہی جگہ سے
پھوٹے۔کمانی، کسی چکر دار چیز کا پیچ، لپیٹنا، لپٹا ہوا
بنڈل، کاغذ کا پلندہ، گولا، لڑھکاؤ، گردش، چکر، لپٹا ہوا
کاغذ، گٹھری، بقچہ، پوٹ، چھوٹی گٹھڑی، گڈی، بنڈل،
بکس، ڈبہ، رسی یا لوہے کی پٹیوں سے بندھی ہوئی گانٹھ
(bale)، پگڑی۔لفّة بریدیّة: پارسل (postal
package)۔لفافات مِنَ الرَّقّ: جھلی نما کاغذ کے
پلندے۔لِفافة جمع لفافات و لفائف: لپیٹنے کا کاغذ
وغیرہ، غلاف سرپوش، ڈھکنا، لفافہ، پوشش، میز پوش،

خواں پوش، کتاب کا گرد پوش، لپیٹنے کے کپڑے، قربان گاہ کا غلاف، جام اور سینی پوش، زخم پر باندھنے کی پٹی، فیتہ، تسمہ، ڈوری (باندھنے کی)، پنڈلیوں پر لپیٹنے کی پٹی، سگریٹ، لفافة من التبغ: سگریٹ۔ جمع لفائف: کسی چیز کی وضع قطع (مجازاً)، لفیف: جمع مثل د، اکٹھے ہونے والے، پرہجوم، ٹھٹ لگانے والا، بھیڑ ہجوم، ازدحام، کثرت، افراط، جماعت، فوج، گروہ، جمعیت، اکثریت، جم غفیر (من لوگوں کا) ملے جلا مجمع لَفیفُ الناس: بھیڑ، ازدحام، جم غفیر، بے ترتیب مجمع، رذیلوں کی ٹولی، نیچ ذات کے لوگ، گنوار تیل تنولی، عوام، عوام الناس۔ اللفیف الاجنبی: غیر ملکیوں کی بہت بڑی تعداد۔ لَفیفة: بنڈل پیکج، پیکٹ، پیک، سگرٹ۔ اَلَفّ م لَفّاء: مضبوط، قوی، فربہ، جسیم، مِلَفّ جمع مِلَفّات: ریل (reel)، پھرکی، چرخی، برقی تار کا گچھا، فائل، مسل، لفافہ، کتاب وغیرہ کا گرد پوش، کمبل، لپیٹنے کا کاغذ۔ مِلَفُّ التاثیر: Induction coil۔ ملف ابتدائی: پرائمری کوئل۔ ملف خانق: چوکنگ کوائل choking coil۔ چوک choke۔ مِلفاف: لپیٹنے والا، ڈھکنے والا، پوش، پوشش کور (cover)۔ تلفیف: لپیٹنا، کوئل (coil)، پتوں کا گچھا جو ایک ہی جگہ تنے سے پھوٹے، کمانی، کسی چکردار چیز کا پیچ، لپیٹ، پیچ۔ فی تلافیف سویدائها: اس (عورت کے) دل کی گہرائی میں۔ فی تلافیف الظلام: تاریکی میں۔ بین تلافیفه: اس میں، اس کے اندر، اس میں اردگرد۔ التفاف: موڑ، کنی کترانا، (شہر وغیرہ کا) چکر کاٹ کر جانا (دشمن فوج کے پہلوؤں تک پھیل جانا، میمنہ یا میسرہ کی طرف حرکت، محاصرہ، گھیرا۔

لفا: لفا ۔لفا و لفا العودَ: لکڑی چھیلنا۔ ۔ اللحم عن العظم: ہڈی پر سے گوشت اتارنا۔ ۔ ۔ ہُ: کی غیبت کرنا۔ ۔ ہُ حقه: کو حق سے کم دینا، کا حق گھٹانا، کو اس کا پورا پورا حق دینا (ضد)۔ ...تِ الریحُ السحابَ عن وجه الارض: ہوا کا بادلوں کو پراگندہ کرنا۔ اِلتفا العودَ: لکڑی کو چھیلنا۔ اللفاء: مٹی، تھوڑی چیز، حق سے کم۔ اللفیئة جمع لفیا و لفیء: بغیر ہڈی کے گوشت کا ٹکڑا۔

۲۔ لفا ۔لفا و لفاۃً بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ۔ فلانا عن مراده: کو اس کی مراد سے ہٹانا۔

۳۔ لَفِیَ ۔لَفا الشیءُ: چیز کا باقی رہنا۔ الفا اِلفاءَ الشیءَ: چیز کو باقی رکھنا۔

لفت: ا۔ لَفَتَ ۔لَفتا الشیءَ: کو دائیں بائیں موڑنا۔ ...فلاناً عن رأیه: کو اس کی رائے سے دور کرنا۔ ...اللحاءَ عن الشجر: درخت سے چھال اُتارنا۔ ۔ رداءَه عن عُنقه: چادر کو گردن پر موڑنا۔ ...الریشَ علی السهم: تیر پر پر غیر مناسب جگہ لگانا۔ ۔ الراعی الماشیةَ: چرواہے کا مویشی کو بے پرواہی سے مارنا۔ ۔ الکلام: لاپرواہی سے گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ لَفَتَهُ بکذا: اس نے اس کو کوئی چیز دی۔ لَفتَ الشیءَ: کو موڑنا۔ تلفّتَ الیه: کی طرف رخ پھیرنا۔ التفت الیه: کی طرف چہرہ پھیرنا۔ ۔ بوجهه یمنةً و یسرةً: چہرے کو دائیں یا بائیں جھکانا۔ لا تلتفتْ لِفتَ فلان: کی طرف نہ دیکھ۔ اللِفت: بے وقوف عورت۔ (ح) گائے۔ کسی چیز کا نصف یا پہلو۔ لِفتُهُ معه: اس کا رجحان اس کے ساتھ ہے۔ اللفت فی التیس: مینڈھے کی سینگ کی خمیدگی۔ ...فی الانسان: کھبچو پن۔ اللفتة: ہمیشہ مویشیوں کو مارتے رہنے والا گڈریا۔ اللفات: سخت خو، بے وقوف۔ الالفت م لفتاء جمع لُفت: بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا، بے وقوف، مینڈھا جس کا ایک سینگ پیچ دار ہو، مضبوط ہاتھ والا، بھینگا۔ اللفوت: سخت خو، سخت مزاج، چغل خور عورت، وہ عورت جس کی نظر ایک جگہ نہ رکے، دودھ دوہتے وقت بے چین ہونے والی اونٹنی۔ اللفیتة: ایک قسم کا گاڑھا حلوا۔ المتلفتة: کندھے کی ہڈی کا بالائی حصہ۔

۲۔ اللِفت (ن): شلغم۔

○ لفتَ ۔لفتا و اَلفتَ ہ الی: کو کسی طرف موڑنا، جھکانا، مائل کرنا، کا رخ کی طرف کرنا، کو پر مرکوز کرنا۔ ۔ ہ عن: کو سے موڑنا، پھیرنا، دور کرنا، ہٹانا۔ لفت نظرَه الی و الفتَ نظرَه الی: اپنی نگاہ کی طرف موڑنا، اپنی توجہ کی طرف کرنا، اپنی نگاہ کی طرف کرنا، کی توجہ کی طرف مبذول کرنا۔ لفتَ النظرَ: توجہ کھینچنا، پراثر، موثر، دلنشیں، پرشکوہ، شاندار، مرعوب کن یا رعب دار ہونا۔ الفتَ النظر بمعنی لفتَ النظرَ۔ لفتَ الناسَ: لوگوں کو متوجہ کرنا، گرویدہ کرنا، کشش کرنا، کھینچنا، راغب کرنا یا ان کا دل موہ لینا اور ان میں دلچسپی پیدا کرنا۔ تلفّتَ اِلی: کی طرف مڑنا، کی طرف اپنا منہ کرنا۔ تلفّتَ حوله: اپنے اردگرد دیکھنا، چاروں طرف دیکھنا۔ تلفّتَ یمنةً و یسرةً: اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ اِلتفتَ الی: کی طرف مڑنا، اپنا چہرہ کی طرف کرنا، کی طرف متوجہ ہونا، کی طرف التفات کرنا، دھیان کرنا، توجہ کرنا، کو دیکھنا، کو خاطر میں لانا، کو اہمیت دینا، کا خیال رکھنا، کی بہبودی یا برتری کے لئے کوشاں ہونا۔ التفت حوله: چاروں طرف دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا۔ اِستلفتَ ہ: نگاہوں، توجہ کو کھینچنا۔ ...ہ من: کی دلچسپی/توجہ بیدار کرنا۔ اِستلفتَ نظرہ یا انظارہ: کی توجہ کھینچنا، سے نظریں چار ہونا۔ بدون الالتفات: بے توجہی سے۔ بدون الالتفات الی: کالحاظ نہ کرنے والا، کا پاس کئے بغیر۔ عدم الالتفات: بے توجہی، تغافل، لاپروائی، بے رخی، بے اعتنائی۔ نظر الیه بعین الالتفات: پر ہمدردانہ غور کرنا۔ لافِتة: سائن بورڈ۔ مُلفِتُ النظر: توجہ کھینچنے والا، جاذب توجہ، ظاہر، عیاں، صریح، واضح۔ مُلتفِت: احترام کرنے والا، متوجہ، ہوشیار، محتاط، بامروت، بالحاظ، دوسروں کا خیال رکھنے والا۔ ...الی: کی طرف دیکھنے والا۔

لفج: اَلفجَ: کا مال جاتا رہنا، مفلس ہو جانا، دیوالیہ ہو جانا، غم وغیرہ کی وجہ سے زمین سے چمٹنا۔ ۔ فلاناً: کو محتاج بنانا، مجبور کرنا۔ اللفج: ذلت۔ المُلفَج: مفلس، لاغری سے زمین سے چمٹنے والا۔ المُستلفِج: مفلس، لاغری کی وجہ سے، زمین سے چمٹنے والا، دیوالیہ، ڈر کے مارے بے دل ہو جانے والا۔

لفح: لَفَحَ ۔لفحًا فلاناً بالسیف: کو تلوار سے مارنا۔ ...لفحًا و لفحانًا تِ النارُ او السموم بحرّها فلاناً: آگ یا باد سموم کا کسی کے چہرے کو جھلس دینا۔ نار لافِحٌ و لفوحٌ: جھلسانے جلانے والی آگ۔ کہا جاتا ہے۔ اصابه من الحر لفحٌ و من البرد نفحٌ۔ اللفح: گرم ہوا کا جھونکا۔ النفح: ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ اللفاح واحد لفاحة (ن): ایک قسم کا پودا۔

○ لَفح ۔لفحاً و لَفَحاناً ہ: کو جلانا، جھلسانا، داغنا۔ ۔ ہ: کو ہلکے سے مارنا، چھونا یا صاف کرنا یا جھاڑنا (سانس کا)۔ لَفحة جمع لفحات: آگ، حرارت (خصوصاً بخار کی)۔ لفوح و لافح جمع لوافح: جلانے والا، جھلسنے والا، داغنے والا۔ لُفّاح: ایک زہریلا پودا۔

لفخ: لفخ ۔لفخاً فی او علی رأسه: کو سر میں یا سر پر ضرب لگانا۔ اللفخ (مص): پورے سر یا سارے سر پر مارنا۔

لفظ: لَفَظَ ۔و لَفِظَ ۔لَفظًا الشیءَ و بالشیءِ من فمه: کو منہ سے پھینکنا۔ صفت مفعولی لَفیظ و ملفوظ: منہ سے پھینکی ہوئی (چیز)۔ ۔ بالکلام: بات بولنا۔ ۔ فلانٌ نفسَهُ او عَصَبَهُ: مرنا۔(

عـصـبـةُ: کا تھوک یا لعاب دہن جو منہ میں خشک ہو جائے)۔ البـحـرُ دابۃً: سمندر کا جانور کو کنارے پر پھینک دینا۔ کہا جاتا ہے۔ لَفَظَتْ إلینا البلادُ أھلَھا: ملک نے اپنے باشندوں کو ہماری طرف نکال دیا۔ جاءَ و قـد لـفظ لجامَہُ: وہ پیاس اور تھکن سے چور ہو کر آیا۔ تَـلَـفَّـظَ بـالکلام: بولنا، بات منہ سے نکالنا۔ اللافِـظَة: لافِـظ کا مؤنث، سمندر، چکی، دنیا۔ لافِظَةُ: (علم اور مونث ہونے کی وجہ سے غیر منصرف): سمندر۔ الـلَـفـظ (مص) جمع الـفـاظ: لفظ، کلام۔ اللَفظَة جمع لَـفَظَات: لفظ کا اسم مرۃ۔ کلمہ جو منہ سے بولا جائے، اس لئے باپ بیٹے اور روح القدس کی دوسری ذات کے متعلق لـفـظة اللّٰہ نہیں کہا جاتا بلکہ کـلـمـة اللّٰہ کہا جاتا ہے۔ الـلَـفـظِیّ: لفظ سے متعلق، لفظی۔ الـلِفاظ: سبزی۔ الـلُفاظ: پھینکا ہوا، منہ سے نکالی ہوئی بات — د — جمع لفاظ و لُفاظات: منہ سے پھینکی ہوئی چیز، دستر خوان سے جھاڑی ہوئی چیز، کسی چیز کا تھوڑا سا بقیہ۔ الـلَفِـیظ: پھینکی ہوئی چیز۔

○ لفظ - لَفظًا ہ/ب: کو نکالنا، چھوڑنا۔ ہ/ب: کو تھوکنا، نکالنا — ہ من: کو سے باہر پھینکنا۔ لَـفَـظَ: بولنا، اعلان کرنا، ٹھہر ٹھہر کر بولنا، صاف تلفظ سے بولنا۔ — ہ/ب: کا تلفظ کرنا، کہنا، بولنا، کا اظہار کرنا۔ لفظ النفسَ الاخیرَ: مرنا، آخری سانس لینا، حالت نزع میں ہونا۔ لفظ انفاسہ: مرنا۔ لفظ۔ لفظَ النواۃ: کو مسترد کرنا، کو ایک طرف کر دینا۔ تَلَفَّظ ب: کا تلفظ کرنا، کا اعلان کرنا، کو وضاحت سے پیش کرنا۔ لَـفـظ جمع الـفـاظ: لفظ، صوتی مرکب، اظہار، اصطلاح، اظہار مفہوم کے لئے الفاظ کا استعمال، انتخاب الفاظ، تشکیل، صاف تلفظ، تلفظ، ادائیگی، اعلان۔ لفظًا: لفظ بہ لفظ، لفظی۔ لـفـظًا و مـعـنی: الفاظ اور حقیقی مقصد دونوں میں۔ اَخـطـأ الـلَفظَ: غلط تلفظ کرنا، تلفظ میں غلطی کرنا۔ لَفظَة جمع لَفَظَات: لفظ۔ کہی ہوئی بات، کہنا۔ لَفِـیظ: نکالا ہوا، چھوڑا ہوا، ظاہر کیا ہوا، تلفظ کیا ہوا، زبان سے نکالا ہوا۔ مَلفوظ: بمعنی لفیظ۔

لفع: ا۔ لَفَع - لَفعًا تہُ النارُ: تک آگ کا شعلہ پہنچنا۔ الشیبُ رأسَہُ: بالوں کی سفیدی کا پورے سر کو ڈھانپ لینا۔ لَـفَّـع: بمعنی لفع۔ — الغلام: جوان کو بغل گیر کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ لَفَّع رأسَہُ: اس نے اس کے سر کو ڈھانپ لیا۔ تلفع: سفید سر ہونا۔ ...تِ النارُ: آگ کا بھڑکنا — ت الحربُ بالشر: جنگ کا سب کو گھیر لینا۔ — القومُ علی جیش العدو: دشمن کی فوج کو گھیر لینا اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دینا۔ — الـرجُـلُ بالثوب و الشجرُ بالورق: آدمی کا کپڑے سے اور درختوں کا پتوں سے ڈھکنا۔ اِلْتَـفَـعَ الـرجُـلُ بـالثوب و الشجرُ بـالورق: آدمی کا کپڑے سے اور درختوں کا پتوں سے ڈھکنا — ت الارضُ: زمین کا سبزہ سے ڈھک جانا۔ اُلْتُفِعَ لونُہُ: کا رنگ بدل جانا۔ الـلِـفَـاع: چادر یا کمبل، اونٹنی کے اگلے تھن۔ الـلِـفَـاعَة و الـلَفِـیعَة: کرتے کا پیوند۔ الـتَـلْـفِـیـعَة: مفلر یا شال جو سردی میں گردن کے گرد لپیٹی جاتی ہے۔ الملفعة: چادر کمبل وغیرہ، مفلر۔

۲۔ لَفِعَ فلانٌ: بہت کھا جانا۔ تَـلَفَّع المال: مویشیوں کو چرنے سے نفع پہنچانا۔

○ لَـفَّع ہ ب: کو سے ڈھکنا۔ تَـلَـفَّـعَ و الْتَفَعَ ب: میں لپٹنا۔ مِـلْـفَـع: سر کی شال، مفلر، گلو بند، گلو پوش رومال۔

لفق: ا۔ لَفَقَ - لَفْقًا الثوبَ: کپڑے کو دوہرا کر کے سینا۔ لَـفَّقَ الحدیثَ: کلام کو جھوٹ سے مزین کرنا۔ — الشقتین: دونوں سرے ملا کر سینا۔ کہا جاتا ہے: لَـفَّقَ بین الثوبین: اس نے دو کپڑوں کو جوڑ جاڑ کر ٹھیک کر لیا۔ تَـلَفَّقَ بہ: سے جا ملنا — مـا بینھم: کے درمیان معاملات کو درست کرنا۔ تَلافَقَ الـقومُ: کے معاملات کا درست ہونا۔ الـلِـفْـق: چادر کا ایک پاٹ۔ ھـمـا لِفقَان: وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اللِفَاق: دو ساتھ جوڑے ہوئے کپڑے، ان دونوں کپڑوں میں سے ہر ایک لفاق کہلاتا ہے۔

۲۔ لَفِقَ - لَفَقًا الامرَ: کو طلب کرنا اور نہ پانا۔ الصقرُ: شکرے کا شکار پر چھوڑا جانا مگر شکار نہ کرنا۔ لَـفِـقَ الرجُل: مرد کا کوئی کام طلب کرنا اور نہ پانا۔ اللَفّاق: مقصد میں ناکام۔

○ لَفَّقَ ہ: کو گھڑنا، تراشنا، اختراع کرنا، کی تدبیر کرنا، پر غور کر کے انتظام کرنا، میں جعلسازی کرنا، کو جھوٹا بنانا۔ — ہ إلی: کو سے پیوند لگانا، کو سے جوڑنا۔ تـلفیق: اختراع، ایجاد، جعلسازی، جھوٹ، بناوٹ، بناوٹی بات، جھوٹ موٹ کہنا۔ تَـلـفِـیـقَة: اختراع کی ہوئی کہانی، بے ضرر جھوٹ، گپ، من گھڑت قصہ۔ مُـلفق: اختراع کیا ہوا، گھڑا ہوا، جھوٹا بنایا ہوا، بناوٹی، مصنوعی، نقلی، جعلی، گھڑا ہوا، تراشا ہوا، غیر حقیقی، جتن کیا ہوا، ترکیب نکالا ہوا، پیوند کیا ہوا، جوڑا ہوا، جھوٹی باتوں سے مزین کیا ہوا۔

لَفك: الـلِـفِـیك: بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا — والاَلْفَك: بیوقوف۔

لفم: لَفَمَ - لَـفْـمًا تِ المرأةُ: عورت کا ناک پر نقاب باندھنا۔ — المرأۃ فاھا: عورت کا اپنے منہ پر نقاب ڈالنا — ہُ: کو مضبوط باندھنا۔ تَـلَـفَّـمَ ت المرأةُ: عورت کا ناک پر نقاب باندھنا — بعمامتہ: پگڑی سے ڈھاٹا باندھنا۔ اِلْتَـفَـمَ ت الـمـرأةُ: عورت کا ناک پر نقاب باندھنا۔ اللِفام: نقاب۔

لفو: ا۔ لَـفَا یَلْفُو لَفْوًا اللحمَ عن العظم: گوشت کو ہڈی پر سے چھیلنا — فـلانًا حقَّہُ: کسی کے حق کو کم کرنا۔ اللَفِیَّة جمع لَفَایَا: گوشت کا ٹکڑا۔ اللَفَاء: مٹی، خسیس، حقیر۔ کہا جاتا ہے رَضـی فـلان من الوفاء بـالـلفاء: فلاں شخص اپنے بہت سارے حق میں سے تھوڑے پر راضی ہو گیا۔

۲۔ اَلْـفَی إلْفَاءً ہُ: کو پانا۔ تَـلَافَی الامرَ: کا تدارک کرنا۔ التَلافِی: خون کا بدلہ لینا۔

○ اَلْـفَی ہ/ ہ: کو پانا۔ تَـلافَی ہ: کو ٹھیک کرنا، سیدھا کرنا، کی تلافی کرنا، کا نقصان پورا کرنا، کی تصحیح کرنا — ہ: (خطرہ) دور کرنا، کی تدبیر کرنا، کا چارہ کرنا، کا چارہ کار اختیار کرنا، اصلاح کرنا، (نقصان) کی تلافی کرنا۔

لق: ا۔ لَقَّ - لَقًّا عینَہُ: کی آنکھ پر ہاتھ سے مارنا۔ صفت فـاعـلـی لاقّ جـمـع لقفة۔ اللَقَقَة: واحد لاق، لوگوں کی آنکھوں پر ہتھیلیوں سے مارنے والے۔

۲۔ الـلَقّ: زمین کی دراڑ، شگاف، اونچی زمین، تنگ اور لمبی زمین، بہت باتونی۔ الـلَـقَـقَة: تنگ دہانوں والے گڑھے، کہا جاتا ہے رجُلٌ لَقّاق بقّاق: بہت باتونی مرد۔

۳۔ لَقْلَقَ اللقلاقُ: سارس کا آواز نکالنا — ت الحیَّةُ: سانپ کا اپنی زبان نکالنا — الشیءَ: کو حرکت دینا۔ تَـلَقْلَقَ الشیءُ: ہلنا۔ الـلَقْلَق جمع لَقَالِق (ح): سارس، جس کی کنیت ابو خدیج ہے، زبان۔ اللَقْلَقَة: سارس کی آواز، حرکت اور اضطراب والی آواز۔ کہا جاتا ہے فی لسانہ لَقْلَقَة: اس کی زبان میں لکنت یا ہکلا پن ہے۔ حـروف الـلـقـلقة: ب، ج، د، ط، ق۔ الـلَـقلاق (ح): سارس آواز، شور و غل۔ طَـرفٌ مُلَقْلَق: تیز نظر جو ایک جگہ نہ ٹھہرے۔

○ لَقْـلَـق و لَـقلاق جمع لَقَالِق: سارس کی طرح کا ایک پرندہ۔ لقلق لَـقْـلَق: چخ چخ کرنا، بک بک کرنا، ہرزہ سرائی کرنا، چوں چوں کرنا۔

لقب: لَقَّبَ فلانًا بکذا: کا کوئی لقب رکھنا۔ لاقَبَ ہُ: کو برے لقب سے گالی دینا۔ تَـلَـقَّب بکذا: کوئی لقب پانا۔ تَلاقَب الـقومُ: ایک دوسرے کو برے القاب

سے گالی دینا۔ اللَقَب جمع اَلقاب۔ اصل نام کے علاوہ دوسرا نام جو اس کے معنی کے لحاظ سے مدح یا ذم معلوم ہوتا ہے۔

○ لَقَّبَ ہ ب: کیسکو کسی عرفی نام سے پکارنا، کا کوئی لقب رکھنا۔ تَلَقَّبَ ب: کا کوئی لقب ہونا۔ لَقَب جمع اَلقاب: لقب، عرفی نام، تعظیمی خطاب، خاندانی نام، آخری نام۔ لَقَبُ البُطولة: میر کھلاڑی کا خطاب۔ title of champion (insports)۔ مُلَقَّب ب: سے مُلقّب۔

لفح: ا۔ لَقَحَ ۔لَقحاً النخلَ: نر کھجور کا شگوفہ مادہ کھجور میں ڈالنا۔ لَقِحَ ۔لَقَحًا و لَقاحًا و لَقاحات الناقة و نحوها: اونٹنی وغیرہ کا حاملہ ہونا۔ صفت لاقِح و لَقُوح۔ ـ ـــ لَقحاتِ المرأةُ او النخلةُ: عورت یا مادہ کھجور کے درخت کا حاملہ ہونا۔ ـــ ت الحربُ: لڑائی کا سکون کے بعد بھڑک اٹھنا۔ لَقَّحَ النخلةَ: مادہ کھجور کے درخت کو بار آور کرنا۔ ـــ ہُ (طب): کو ٹیکہ لگانا، کو ویکسین کا ٹیکہ لگانا۔ اَلقَحَ النخلةَ: نر کھجور کا شگوفہ مادہ کھجور میں ڈالنا۔ ـــ الفحلُ الناقةَ: نر اونٹ کا اونٹنی کو حاملہ کرنا، گابھن کرنا۔ صفت مفعولی: مَلقوحة جمع مَلاقیح۔ ـ تِ الریحُ الشجرَ او السحابَ: ہوا کا درختوں کو بار آور کرنا، بادل کو پھیلانا۔ ـ بینهم شرًّا: کے درمیان فساد ڈالنا۔ تَلَقَّحَت الناقةُ: اونٹنی کا اپنے آپ کو حاملہ ظاہر کرنا لیکن درحقیقت حاملہ نہ ہونا۔ ـــ ت [illegible] میں ہاتھوں سے اشارہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: تَلَقَّحَ زیدٌ علیَّ: زید نے میری طرف ایسے گناہ کی نسبت کی جو میں نے نہیں کیا۔ اِلتَقَحَتِ الانثی: مادہ کا بار آور ہونا، حاملہ ہونا۔ اِستَلقَحَتِ النخلةُ: مادہ کھجور کے درخت کے بار آور ہونے کا وقت آنا۔ اللاقِح جمع لَواقِح: حاملہ ہونے والی اونٹنی۔ ریحٌ لاقِح: درختوں کو بار آور کرنے والی ہوا۔ اللَواقِح: حاملہ مادائیں۔ ـــ من الریاح: بارش لانے والی ہوائیں۔ اللَقح (مص): حاملہ ہونا۔ اللَقاح (مص): نر کھجور کا شگوفہ جو مادہ کھجور میں ڈالا جائے، پھول کا زیرہ، زرگل، حمل، بار آوری، ثمر داری، ویکسین vaccine، نطفہ، مادہ منویہ، نر کا مادہ تولید۔ عِلمُ اللَقاح: علم نباتات کی ایک قسم، جس نے بہت ترقی کی ہے، اس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کس قسم کے پھولوں سے شہد نکالا جا سکتا ہے۔ اللِقاح: لَقوح کی جمع۔ نر گھوڑے اور نر اونٹ کا مادہ تولید۔ اللِقحة جمع لِقَح و لِقاح: دودھ پلانے والی دایہ۔ ـــ

و اللُقحة جمع لُقَح و لِقاح: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ اللَقوح جمع لُقُح: حاملہ اونٹنی۔ ـ جمع لِقاح و لَقائح: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ الملاقِح واحد مُلقِح: حاملہ کرنے والے...... واحد مُلقِحة: حاملہ مادائیں۔ الملاقیح: نر اونٹوں اور نر گھوڑوں میں گابھن کرنے کا مادہ۔ واحد مَلقوحة: مائیں، پیٹ کے بچے (جنین)۔ المُلقَّح (مفع): آزمودہ۔

۲۔ لَقَحَ ۔لَقحاً ہُ علی الارض: کو زمین پر پچھاڑنا (عوام کی زبان میں)

۳۔ اللِقحة جمع لِقَح و لِقاح (ح): عقاب (ح) کوا۔ ـ جمع لِقاح: قَس۔ اللَواقِح: کوڑے۔

○ لَقَّحَ ۔لَقحاً و لَقَّحَ ہ: کو حاملہ کرنا، کو ثمر دار کرنا، بار آور کرنا، کو زرخیز کرنا، پر زیرہ گل چھڑکنا۔ ـــ ہ (درخت) کو قلم لگانا، پیوند لگانا، درخت کا کلیاں نکالنا، درخت کا پھوٹنا۔ ـ ہ: کو ٹیکہ لگانا، کو ویکسین کا ٹیکہ لگانا، چیچک کا ٹیکہ لگانا۔ تَلاقَحَ: زیرہ گل سے دو درختوں کا باہم زرخیز ہونا۔ لَقَحَ: حاملہ کرنا، ثمر دار کرنا، بار آور کرنا، زرخیز کرنا۔ لَقاح: بیج، نطفہ، مادہ منویہ، نر کا مادہ تولید، پھول کا ریزہ، زرگل، اُڑ کر لگنے والا عامل، متعدی عامل، کسی متعدی مرض کا زہر، (virus)، زہریلا مادہ، ویکسین (vaccine)۔ لَقاحُ الجُدَري: چیچک کے ٹیکے کی دوا۔ لَقاحُ الوقاية: سیرم (serum)۔ تَلقیح الجُدَري: چیچک وغیرہ کا ٹیکہ۔ دقیق اللواقح: پھول کا ریزہ زرگل، زیرہ گل۔ مُلقَّح: ٹیکہ لگا ہوا، چیچک کا ٹیکہ لگا ہوا، ویکسین کا ٹیکہ لگا ہوا۔

لقز: لَقَزَ ۔لَقزاً ہُ: کو مکا مارنا۔

لقس: ا۔ لَقَسَ ۔لَقساً ہُ: کو عیب لگانا۔ صفت لاقِس۔ لاقَسَ لِقاساً و مُلاقسةً القومُ: ایک دوسرے کو برے القاب دینا۔ تَلاقَسَ القومُ: ایک دوسرے کو گالی دینا، باہم گالم گلوچ کرنا۔ اللَقَس و اللاقِس: خارش، کھجلی۔ اللَقِس: لوگوں سے تمسخر کرنے والا، کو برے القاب دینے والا۔

۲۔ لَقِسَ ۔لَقَساً ت نفسُہُ من الشیءِ: سے جی متلانا۔ صفت لَقِسة۔ ـــ ت نفسُ فلانٍ إلی الشیءِ: کی طرف راغب ہونا، مائل ہونا۔ تَلَقَّسَ ت نفسُہُ من الشیءِ: سے تنگ ہونا۔ اللَقِس: بد خلق، ہر چیز کا حریص، کسی بات پر نہ جمنے والا۔

۳۔ لَقِسَ ۔لَقساً بامرٍ: کو سمجھ لینا، کا ادراک کر لینا، سے آگاہ ہو جانا۔ صفت لَقِس۔

۴۔ اللَقِّیس: دیر سے آنے والا، دیر کرنے والا، عوام اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں۔ تَلَقَّسَ: یعنی اس نے دیر کی۔ (سریانی)۔ المُلاقِس: صبر کرنے والا۔

○ لَقِسُ النفس: پریشان، تنگ مزاج، چڑچڑا۔

لقص: ا۔ لَقَصَ ۔لَقصًا الشیءُ جلدَہ: چیز کا جلد کو گرمی سے جلانا۔

۲۔ لَقِصَ ۔لَقَصًا الشیءُ: چیز کا تنگ ہونا۔ ـــ ت نفسُہُ: جی متلانا۔ اللَقِص: تنگ۔

۳۔ اِلتَقَصَ الشیءَ: کو لینا، پکڑنا۔

۴۔ اللَقِص: شرارت میں جلدی کرنے والا، باتونی۔

لقط: ا۔ لَقَطَ ۔لَقطًا الشیءَ: کو زمین سے اٹھا لینا۔ ـــ العلمَ من الکتب: علم مختلف کتابوں سے حاصل کرنا۔ ـــ الطائرُ الحبَّ: پرندہ کا چونچ سے دانہ چگنا۔ صفت۔ لاقِط و لَقّاط۔ تَلَقَّطَ الشیءَ: چیز کو ادھر اُدھر سے اکٹھا کرنا۔ اِلتَقَطَ الشیءَ: کو اتفاقیہ معلوم کرنا، کو زمین سے اٹھا لینا، کو ادھر سے ادھر سے جمع کرنا۔ ـــ اللِقاط: گری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا۔ اللاقِط (فا): گرے ہوئے خوشے چننے والا۔ اللاقِطة: لاقط کا مونث۔ ضرب المثل۔ لکلّ ساقِطةٍ لاقِطةٌ: یعنی ہر بات جو زبان سے نکلے اس کو سننے والا ہے۔ جو اسے پھیلا دیتا ہے، یہ گویا نصیحت ہے کہ بات احتیاط سے کی جائے، پیچ و ناکارہ مرد یا عورت۔ لاقطة الحصی: پرندہ کا پوٹا۔ اللَقط واحد لَقَطة: اٹھائی ہوئی چیز، خوشے یا کھجور جو چھانٹے گئے ہوں۔ لَقَطُ المعدن: کان کی کچی دھات کے ٹکڑے۔ کہا جاتا ہے: فی المکان لَقَطٌ لماشیة: اس جگہ جانوروں کیلئے تھوڑا سا چارہ ہے۔ اللُقْطة و اللُقَطة: زمین پر گری پڑی چیز جس کے مالک کا پتہ نہ ہو اور آپ اسے اٹھالیں۔ اللَقَطة جمع لَقَط (ن): ایک سبزی جو جانوروں کی مرغوب غذا ہے۔ اللُقاط و اللِقاط: فصل کاٹنے والے سے گرے ہوئے خوشے جو بعد میں چنے جاتے ہیں، زمین پر پڑی ہوئی پائی جانے والی چیز۔ اللِقاط: لُقاط کی جمع اور اس کا اکٹھا کرنا۔ اللُقاطة جمع لُقاط: بمعنی لُقاط: گری ہوئی بے قیمت چیز۔ اللَقّاط و اللَقّاطة: بہت اٹھانے والا۔ اللَقیط: اٹھایا ہوا، یافتہ بچہ۔ اللَقیطة جمع لَقائط: لقیط کا مونث، گرا ہوا ارذیل مرد یا عورت۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ لُقَیطی خُلَیطی: چغلخوری کیلئے ادھر ادھر سے خبریں بٹورنے والا۔ الألقاط: آوارہ اوباش لوگ، تھوڑے متفرق لوگ۔ المَلقَط: مطلب، دھات۔ المِلقاة جمع ملاقِط: چمٹا، دست پناہ۔ المِلقاط جمع ملاقیط: قلم نقش کرنے کا آلہ۔ (ح): بکری۔ المَلقوط (مفع) جمع

مَلاقِيط: نومولود جسے پھینک دیا گیا ہو اور اٹھالیا گیا ہو۔ عند العامة: مجرم جسے گرفتار کرلیا گیا ہو۔

۲ لَقَطَ ـُلَقْطًا الثوبَ: کپڑے کو پیوند لگانا لاقَطَ لِقَاطًا و مُلاقَطَةً الفرسُ: گھوڑے کا چاروں ٹانگوں سے روانہ ہونا ہ: کے مقابل ہونا المِلقاط (مص): کہا جاتا ہے دارُهُ بِلقاطِ داري: اس کا گھر میرے گھر کے مقابل ہے لَقِيتُه لِقاطًا: میں اس سے منہ در منہ ملا۔ (نصب حال کی وجہ سے ہے)۔

۳ المِلاقِط: آزاد کردہ غلام، آواز دیتے ہوئے کہا جاتا ہے یا مُلقَطان: یعنی اے بے وقوف۔ مؤنث مُلْقُطانة۔

لَقَطَ ـُلَقْطًا و لَقَّطَ ہ: کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، کو زمین میں پانا، کو زمین پر سے لگانا، (بالیں) جمع کرنا، کو ایک ایک کر کے چننا، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا، تھوڑا تھوڑا منتخب کرنا تلقّط ہ: کو اکٹھا کر کے جمع کرنا، ایک ایک کر کے چننا، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا، تھوڑا تھوڑا منتخب کرنا، اٹھانا، پانا، اٹھا کر کھڑا کرنا، کہیں سے سنی گئی پالینا، کو لیجانا اِلتَقَطَ بمعنی لَقَطَ نیز اِلتَقَطَ ہ: (ریڈیو لہریں یا ریڈیو پیغامات) وصول کرنا ہ: (تصویر۔ فوٹو) اُتارنا، کھینچنا اِلتَقَطَ صورةً: تصویر بنانا لَقَط: جو چیز اٹھائی یا جمع کی جائے، پس خوردہ، بچا کھچا، چنی ہوئی، لی ہوئی، منتخبہ لُقْطَة: بمعنی لَقَط نیز: پائی ہوئی کوئی چیز، دریافت (خوش نصیب دریافت) سو اللُقاط و لُقاطة بمعنی لَقَط نیز دانوں کے بچے کھچے خوشے، منتخبہ، پس خوردہ، چنی ہوئی، لی ہوئی، آخور، فضلہ، چھیچھڑے او جھڑی وغیرہ لَقِيط: اٹھایا ہوا، پایا ہوا، گرا پڑا بچہ۔ لَقِيطة: گری پڑی بچی مِلقَط جمع مَلاقِط: چمٹا، دست پناہ، چمٹی، سنسی، موچنا، چھوٹی سنسی، پلاس۔ ملقط الجنين: جراحی چمٹی مِلقَطُ النار: کوئلے پکڑنے کا چمٹا، جهاز الالتقاط: رسیور (ریڈیو، ٹیلیویژن سیٹ) لاقِطُ الصوت: فونوگراف، گراموفون لاقِطةُ الألغام: سرنگیں ہٹانے یا صاف کرنے والا جہاز (mine weeper)۔

لقع: لَقَعَ ـَلَقْعًا الشيءَ: کو پھینکنا فلانًا بعينه: کو نظر بد لگانا۔ ہ بالكلام: پر باتوں میں غالب ہونا۔ ـ تُه الحية: سانپ کا کسی کو ڈسنا۔ فلانًا: پر عیب لگانا۔ فلانٌ: عیب دار ہونا ـــ لَقَعانًا: تیزی سے گزرنا لاقَعَ فلانًا بالكلام: پر گفتگو میں غالب ہونا تَلَقَّعَ بالكلام: فضول گوئی کرنا اللُقاع و اللُقّاع واحد لُقاعة ولُقّاعة (ح): کاٹنے والی سبز رنگ کی مکھی المِلقَعة و اللُقاع و اللُقّاعة و التِلقاع و التِلِقّاعة: بڑا عیب جو، لوگوں کو برے القاب دینے والا۔ بہت باتیں کرنے والا، بے وقوف۔ کہا جاتا ہے: امرأة مِلقاع و مِلقَعة: بیہودہ گو یا فحش گو عورت۔

۲ اِلتَقَعَ لونُهُ: کا رنگ متغیر ہو جانا۔

لَقَعَ ـَلَقْعًا ہ: کو پھینک دینا، کو بے کار سمجھ کر پھینک دینا، کو ترک کر دینا۔

لقف: لَقِفَ ـَلَقْفًا و لَقَفانًا الشيءَ: چیز کو جلدی سے پکڑ لینا، کو اچک لینا لَقَّفَهُ الشيءَ: چیز کو کسی کی طرف پھینکنا کہ وہ اسے اچک لے۔ ـ هُ الطعامَ: کو کھانا نگلوانا ـــ الطعامَ: کھانا نگلنا تَلَقَّفَ الشيءَ: چیز کو جلدی سے پکڑ لینا ـــ الطعامَ: کھانا نگلنا۔ کہا جاتا ہے تَلَقَّفَ مِن فيه كذا: کو محفوظ کر لینا المُتَلَقِّف: جلدی سے پکڑ لینا المِتلقاف و تلقف: کی طرح اچک لینا اللَقِف و اللَقْف و اللَقيف من الرجال: پھرتیلا، ماہر، دانا۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ ثَقْفٌ لَقْفٌ و ثَقِفٌ لَقِفٌ و ثَقِيفٌ لَقِيفٌ: تیز فہم چابک دست، ماہر، سبک دست، ذہین، زیرک (مرد) اللَقافة: مہارت، سبک دستی، تیز فہمی، ذہانت۔

۲ لَقِفَ ـَلَقَفًا الحوضُ: حوض کا اندر سے گر کر وسیع ہونا۔ صفت لَقِف ـــ الحائطُ: دیوار کا گر جانا۔ لَقَّفَ الفرسُ: گھوڑے کا اگلی دو ٹانگوں سے سرپٹ دوڑنا تَلَقَّفَ الحائطُ والحوضُ: دیوار یا حوض کا گر جانا اللَقَف (مص) جمع اَلقاف: کنویں کا کنارہ، حوض بَعيرٌ مُتَلَقِّفٌ: تیز رفتار اونٹ۔

لَقِفَ ـَلَقْفًا و لَقَفانًا ہ: کو جلدی سے پکڑ لینا، لپک کر لینا، اچک لینا، جھپٹ لینا ـــ ہ عن: کو سے چھین لینا، جھپٹ لینا، کو سے سنبھالنا تَلَقَّفَ و التقف بمعنی لَقِفَ نیز تَلَقَّفَ و التَقَفَ ہ: سے فائدہ اٹھانا، کو زبردستی لے لینا، پر بالجبر قبضہ کرنا۔

لقم: لَقَمَ ـُلَقْمًا الطعامَ: کھانا جلدی سے کھانا۔ الطريقَ وغيرَهُ: راستے وغیرہ کا دہانہ بند کرنا لَقَّمَ الخبزَ: روٹی کے لقمے بنانا ـ و اَلقَمَهُ الطعامَ: سے کھانے کے لقمے بنوانا۔ کہا جاتا ہے اَلقَمَهُ الحجرَ: اس نے اس کو جھگڑے میں خاموش کر دیا۔ تَلَقَّمَ الشيءَ: کو جلدی جلدی کھانا اِلتَقَمَ الطعامَ: کھانے کو نگلنا یا بڑے بڑے نوالے کھانا۔ کہا جاتا ہے اِلتَقَمَ اُذنَهُ: اس نے اس کے کان میں کہا۔ اس نے اس سے سرگوشی کی اللَقَم و اللَقْم راستے کا بڑا حصہ یا اس کا وسط یا کھلا راستہ المَلقَمة: لقمہ لقمہ کھانا المُلقُمة جمع لُقَم: لقمہ المِلقَم: لقمہ المِتلقام و التِلقامة و التِلِقّام و التِلِقّامة: بڑے بڑے لقمے نگلنے والا۔

۲ تَلَقَّمَ الماءُ في بطنه: پانی کا پیٹ میں بولنا رَكِيَّة مُتَلَقِّمة: بہت پانی والا کنواں۔

لَقَمَ ـُلَقْمًا ہ: کو بند کرنا، روکنا، (راستہ) روکنا۔

لَقِمَ ـَلَقْمًا ہ: کو کھانا، کو بے حد شوق سے کھانا، ہڑپ کرنا، نگلنا اَلقَمَ ہ: کو لقمہ لقمہ کر کے کھلانا۔ ہ (بندوق وغیرہ) میں گولیاں بھرنا، (توپ میں) گولے ڈالنا لَقَّمَ القهوةَ: قہوہ کو گرم پانی میں ملانا اَلقَمَ ہ: سے نگلوانا، کو لقمے لقمے کر کے کھلانا۔ اِلتَقَمَ ہ: کو ہڑپ کرنا، نگلنا لُقمة جمع لُقَم: ٹکڑا، لقمہ، چھوٹا ٹکڑا، نوالہ لُقمةٌ سائغةٌ: تر نوالہ، مزیدار لقمہ، پسندیدہ لقمہ جَعَلَهُ لُقمةً سائغةً لـ: کو کا آسان شکار بنا دینا لُقمةُ القاضي: ایک قسم کی پیسٹری لُقَيمة جمع لُقَيمات: لقمہ، نوالہ، ہلکا ناشتہ، ٹکڑا مُلَقِّم جمع مُلَقِّمون: معاون توپچی، توپچی۔

لَقِمي یا لاقِمي: کھجور کی شراب لُقمان: لقمان، ایک فرضی دانا اور متعدد حکایات کا مصنف بقيت دارُ لقمان على حالها: ہر چیز پہلی جیسی رہی ہے۔

لقن: لَقُنَ ـُلَقَانة: سمجھدار اور عقلمند ہونا لَقِنَ ـَلَقْنًا و لَقَانةً و لَقَانيةً و تَلَقَّنَ الكلامَ مِن فلانٍ: سے کلام بالمشافہ لینا اور سمجھنا لَقَّنَهُ الكلامَ: کو کلام بالمشافہ سمجھانا اِلتَقَنَ الكلامَ: کلام کو جلدی سے حفظ کر لینا اللَقِن: زود فہم تیز فہم۔ کہا جاتا ہے هو ثَقِفٌ لَقِنٌ: وہ بڑا سمجھدار ہے اور سنی ہوئی بات کو جلدی یاد کر لیتا ہے اللَقانة و اللَقانية (مصدر ہیں): تیز فہمی، زود فہمی۔

۲ اللِقَن: سہارا، مدد، حمایت اللَقَن: پیتل کا تھال، جسے لگن بھی کہا جاتا ہے، جو فارسی لفظ ہے اللَواقِن: پیٹ کا زیریں حصہ۔

لَقِنَ ـَلَقَانةً و لَقَانيةً ہ: کو سمجھنا، کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، مستنبط کرنا، قلمبند کرنا لَقَّنَ ہ: کو کچھ سکھانا، کو کی تعلیم دینا، کو کچھ املا کرانا، کو کچھ ذہن نشین کرنا، کو کی روح پھونکنا، میں کا جوش پیدا کرنا، کے دل میں کچھ بٹھانا، میں کا خیال ڈالنا، کے دل میں کوئی بات ڈالنا، کے کان میں کچھ کہنا، سے کی سرگوشی کرنا۔ ......ہ: کو اکسانا، آمادہ کرنا، کو یاد دلانا تَلَقَّنَ بمعنی لَقِنَ نیز تَلَقَّنَ ہ من: سے کچھ سیکھنا، وصول کرنا، حاصل کرنا، کے ذریعے سے مطلع ہونا لَقانة و لَقانية: زود فہمی،

تیزفہمی، ادراک۔ تلقین: تعلیم، ہدایات، املا، حکم، ارشاد، تخلیقی تحریک، تلقین، اشارہ، الہام، ایما، رشوت دیکر گواہ سے دلوائی گئی جھوٹی شہادت۔ مُلَقِّن: ع، روح پھونکنے والا، تلقین کرنے والا، دل میں ڈالنے والا، فقیہ جو میت کو اسکی قبر میں تعلیم دیتا ہے کہ وہ موت کے دو فرشتوں کو کیا کہے۔

لقو: لَقَا یَلْقُو لَقْوًا فلانًا: کو لقوی میں مبتلا کرنا۔ لُقِیَ لَقْوًا: لقوہ میں مبتلا ہونا۔ اللَّقْوَۃ (طب): لقوا، منہ کے ٹیڑھے ہونے کی بیماری۔ — و اللِّقوۃ جمع لِقَاء و اَلْقَاء (ح): مادہ عقاب، تیز پرواز عقاب۔ المَلْقُوّ: لقوے میں مبتلا۔

لقی: لَقِیَ یَلْقَی لِقَاءً ا و لِقَاءَۃً و لِقَایَۃً و لُقَاءَۃً و لُقْیَانًا و لِقْیَانًا ولِقْیَانَۃً و لُقِیًّا و لِقِیًّا و لَقْیَۃً و لُقْیَۃً و لُقًی فلانًا: کا استقبال کرنا، کو پانا، دیکھنا، سے ملاقات کرنا۔ لاقَی لِقَاءً و مُلاقاۃً الرجُلَ: کے آمنے سامنے آنا، سے ملاقات کرنا، ملنا۔ کہاجاتا ہے: لاقی بین طرفی القضیب: اس نے کاٹی ہوئی شاخ کے سروں کو جھکا کر ملا دیا۔ لُوقِیَ بینهما: ان دونوں کو آپس میں ملادیا گیا۔ تلقّی الشیءَ: چیز کو پانا، کا استقبال کرنا۔ —ت المرأۃ: عورت کا حاملہ ہونا صفت مُتَلَقٍّ۔ اِلْتَقَی الشیءَ: سے ملنا، کو پانا۔ — القومُ: بعض کا بعض کو ملنا، ایک دوسرے کو ملنا۔ تَلاقَی القومُ: بعض کا بعض سے ملنا۔ اللَّقْیَۃ جمع لُقًی: لقی کا اسم مرہ۔ ملاقات، پانا۔ کہاجاتا ہے: لقیتُہ لُقًی کثیرۃً: میں اُسے کئی بار ملا، میں نے اُس سے بہت سی ملاقاتیں کیں۔ اللِّقیاء: لقاء کا اسم۔ التِّلقاء: لقاء کا اسم، ملاقات کی جگہ، ملاقات۔ جَلَسَ تِلقاءَہ: اس کے مقابل بیٹھا۔ فَعَلَ الامرَ من تلقاء نفسه: اس نے وہ کام خود بخود کیا بغیر اس کے کہ اُسے اس پر مجبور کیا گیا ہو۔ اللَّقِیّ م لَقِیَّۃ: بھلائی یا برائی کیلئے سامنے آنے والا، اس کا اکثر استعمال برائی کے لئے ہے۔ کہاجاتا ہے: هو شقیٌّ لَقِیٌّ: وہ شر انگیز ملاقاتی ہے، اتباع، ملنے والا۔ کہاجاتا ہے: هما لَقِیَّان و لِقِیّان: وہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے ملنے والے ہیں۔ اللَّقَّاء: خیر و شر کیلئے سامنے آنے والا، شر کیلئے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یوم التَّلاقِی: قیامت کا دن۔ المُتَلاقی (فا) شعر کے اوزان میں سے ایک بحر کا نام جو متدارک اور خبب ہے جو فَعِلُنْ سے آٹھ بار پر مشتمل ہے۔ المُلَقَّی: خیر اور شر کیلئے سامنے آنے والا، اکثر شر کیلئے آتا ہے۔ کہاجاتا ہے: فلانٌ مُلَقًّی: مصائب اس کی آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ المَلْقَی و المُلْتَقَی: جائے ملاقات۔ المَلاقِی: مَلْقَی کی جمع۔ مَلاقِی الأجفان: پلکوں کے ملنے کی جگہ۔ المُلَقَّی و المَلْقَی: خیر و شر کے لئے سامنے آنے والا، شر کے لئے کثیر الاستعمال ہے۔ کہاجاتا ہے: الشجاع مُوَقًّی و الجبان مُلَقًّی: بہادر کو محفوظ رکھاجاتا ہے، بزدل منحوس ہوتا ہے۔ کہاجاتا ہے: هو جاری مُلاقِیَّ: وہ میرے سامنے کا پڑوسی ہے۔

۲۔ لَقَّی تَلْقِیَۃً فلانًا الشيءَ: کی طرف کوئی چیز پھینکنا۔ اَلْقَی الشيءَ اِلَی الارض: چیز کو زمین پر پھینکنا۔ ...... الیه القولَ و بالقولِ: کو بات پہنچانا...... علیه القولَ: سے بات لکھوانا، املا کرانا، کو کوئی تعلیم دینا، کو بات پہنچانا۔ — فیه الشيءَ: میں چیز رکھنا — عنهُ الشيءَ: سے چیز کو دور پھینکنا۔ — الیه السمع: کی طرف کان لگانا۔ — الیه خیرًا: سے نیکی کرنا۔ — الیه بالاً: کی پروا کرنا، کی بات خود سے سننا۔ کہاجاتا ہے: القیتُ الیه المودّۃَ و بالمودّۃ: میں نے اس سے محبت کی۔ تَلَقَّی الشيءَ منه: سے کوئی بات سیکھنا۔ تَلاقَی القومُ: آپس میں جھگڑنا۔ اِسْتَلْقَی علی قفاہ: چت لیٹنا، سونا۔ اللَّقَی جمع اَلْقَاء: پھینکی ہوئی ردی چیز۔ اللَّقْیَۃ و اللُّقْیَۃ مصدر ہیں۔ اللَّقِیَّۃ عند العامۃ: زمین میں مدفون خزانہ یا کھوئی ہوئی وہ چیز جو راستوں پر پڑی ہوئی پائی جائے۔ الأُلْقِیَّۃ جمع الأَلاقِی: چیستان، پہیلی۔ المُلْقَی: چیز ڈالنے کی جگہ۔ کہاجاتا ہے: هذا مُلْقَی الکناسات: یہ کوڑا پھینکنے کی جگہ ہے۔ فناءُ فلانٍ مُلْقَی الرحال: فلاں کے گھر کا صحن کجاووں کے اترنے کی جگہ ہے یعنی وہ بڑا مہمان نواز ہے۔

۳۔ اللُّقَی: پرندے، وردیں۔ اللَّقَاۃ: راستہ کا بیچ۔ الأَلاقِیّ: سختیاں، افسوسناک حادثات۔

لَقِیَ لِقَاءً و لُقْیانًا و لَقًی و لُقْیَۃً و لُقًّی ہ/ ہ: سے مڈبھیڑ ہونا، کو دیکھنا — ہ: کو ملنا۔ — ہ/ ہ: سے اتفاقا ملنا، کو اتفاقا پانا، پر نازل ہونا، کو پانا۔ — ہ کا تجربہ کرنا، سے دوچار ہونا، سے گزرنا، کو برداشت کرنا، کو جھیلنا، کو اٹھانا، دیکھنا (مصائب وغیرہ) — ہ: کے حصہ میں آنا۔ لاقَی ہ: سے ملنا، سے اتفاقا ملنا، سے مڈبھیڑ ہونا، — ہ/ ہ: پر نازل ہونا۔ — ہ کا تجربہ کرنا، سے دوچار ہونا، سے گزرنا، کو برداشت کرنا، کو جھیلنا، دیکھنا (مصائب وغیرہ)۔ — ہ کو وصول کرنا، حاصل کرنا۔ لاقَی آذانًا صاغیۃً: سننے والے کان پانا۔ اَلْقَی ہ: کو پھینکنا، گرانا، کو دور پھینک دینا، کو بیکار سمجھ کر پھینک دینا۔ — ہ علی: کو کے سامنے پیش کرنا، رکھنا، کی خدمت میں پیش کرنا، سے سوال کرنا۔ — ہ الی/علی: کی سے رپورٹ کرنا، کو کے آگے پیش کرنا۔ — ہ: گیت گانا، کو پیش کرنا (جیسے نشر کرنے والی کوئی چیز) — ہ: (لیکچر) دینا — ہ: (کلاس) لینا۔ — ہ: خطاب کرنا۔ — ہ الی: کو (مبارکباد) پیش کرنا۔ — ہ علی: پر کچھ عائد کرنا، کو سے زیر بار کرنا۔ القی بالا لِ، القی باله إلی: پر توجہ کرنا۔ القی بیاناً عن: کے بارے میں یا پر بیان دینا۔ القی البیضَ: انڈے دینا۔ القی مقالید امرہ إلی فلان: اپنا انجام، قسمت، مقدر وغیرہ کے ہاتھوں میں دینا، اپنی قسمت کے سپرد کرنا۔ القی بنفسه فی: اپنے آپ کو میں پھینکنا، میں یکایک کود پڑنا، میں چھلانگ لگانا، میں گھس جانا۔ القی بنفسه فی احضانه: اپنے آپ کو کسی کے بازوؤں میں گرا دینا، کے بازوؤں میں آجانا۔ القی بیدہ إلی: اپنے آپ کو کے حوالے کرنا۔ القی الحبل علی الغارب: کھلی چھٹی دینا، کوئی پابندی نہ لگانا۔ القی خطاباً علی: سے (عام) خطاب کرنا۔ القی الدرسَ: درس دینا۔ القی الرعب فی قلبه: کو خوف زدہ کرنا، کو دہشت زدہ کرنا، کے دل میں دہشت ڈالنا۔ القی السلاح: ہتھیار ڈالنا، اطاعت قبول کرلینا، سپرانداز ہونا۔ القی السمع الیه: کی باتیں غور سے سننا، کی طرف کان لگانا۔ القوا الیه أسماعهم: انہوں نے اس کی طرف کان لگائے، اس کی باتیں غور سے سنیں۔ القی علیه سؤالاً: سے کوئی سوال کرنا یا پوچھنا۔ القی علی عاتقه شیئا: پر کوئی چیز عائد کرنا، کو کیلئے ذمہ دار سمجھنا۔ القی علوما: (سائنسی) علوم سکھانا۔ القی القبض علی: کو گرفتار کرنا۔ القی القنابل علی: پر بم گرانا، بمباری کرنا۔ القی علیه القول: کو املا کرانا، سے لکھوانا، کو ہدایات دینا، تعلیم دینا۔ القی علیها کلمۃ الطلاق: اس نے اپنی بیوی کو زبانی طلاق کہہ دیا۔ القی محاضرۃ: لیکچر دینا، کلاس لینا۔ القی المسؤولیۃَ علیه: پر ذمہ داری ڈالنا، سے ذمہ داری کا بوجھ اٹھوانا۔ تلقّی ہ/ ہ: کا استقبال کرنا، کو وصول کرنا، — ہ: کو لینا، قبول کرنا، کو حاصل کرنا۔ — ہ عن: سے کچھ سیکھنا، کے ذریعے سے مطلع ہونا۔ — ہ عن/علی: سے کچھ سیکھنا۔ — عن: سے سبق لینا، سے سیکھنا، تعلیم حاصل کرنا۔ تلقّی امرا: حکم وصول کرنا، سپاہیوں کا احکامات حاصل کرنا۔ تلقَّی الأوامرَ: (تجارت میں) آرڈر لینا۔ تلقّاہ بالتسلیم و القبول: اس نے دل و جان سے یا پورے طور پر اس سے اتفاق

کیا، اس نے خوشی سے کی اطاعت اختیار کی۔تلقی دروساً فی: (کسی شعبہ میں) اسباق لینا۔تلقی العلوم فی الجامعه: یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا۔تلاقی: ملنا، ایک دوسرے میں شامل ہونا، اکٹھا ہونا۔اِلتقی بمعنی تلاقی نیز اِلتقی ب: سے ملنا، سے مڈبھیڑ ہونا۔اِستلقی: اپنے آپ کو نیچے گرا دینا، لیٹ جانا، لیٹنا۔لقی جمع لُقاء: آخور، فضلہ۔تِلقاءَ: کے بالمقابل، کے سامنے۔من تلقاء نفسه یا من تلقاء ذاته: خود، ازخود، خود بخود، آپ ہی آپ، آپ سے آپ۔تلقائی: خودکار، خود بخود کام کرنے والا، بیساختہ، آپ سے آپ، اپنے آپ۔تلقائیًا: آپ سے آپ، خود بخود، خودکارانہ طور پر، بیساختہ۔لقاءَ: کے تبادلہ میں، کے لئے، پر۔لقاءَ کفالة: ضمانت پر، مچلکہ پر۔الی اللقاء: خدا حافظ۔علم الإلقاء: فن خطابت، خطابت، طرز خطاب، اسلوب تقریر۔تلقی العلوم فی: (کسی یونیورسٹی وغیرہ میں) تعلیم حاصل کرنا۔مُلقیاتُ الالغام البحرية: سرنگیں بچھانے والے جہاز۔مُلتقی جمع مُلتقیات: اجلاس کی جگہ، ملاقات کی جگہ، اکٹھے ہونے کی جگہ، مرکز۔ نقطہ، تقاطع، مقام اتصال، سنگھم، چوراہا۔الی المُلتقی: خدا حافظ۔

لك: الملكَّ ـلَكّاهُ: کی گدی پر مکا مارنا، کو دبانا، بھینچنا۔ ......الشیءَ: کو ملانا۔اِلتكَّ الوردُ: پھولوں کا ہجوم ہونا اور ایک دوسرے میں پھنسا ہوا ہونا ...... العسكرُ: لشکر کا متحد ہونا۔اللِكاك جمع لُكُك و لِكاك علی لفظ الواحد: بھیڑ، سخت گوشت والی اونٹنی۔اَلْلَكّ (مص) جمع أَلْكاك و لُكُوك: گوشت۔...... واللُكّ: سخت دیر گوشت۔اللكّة: شدت، مکا۔رجلٌ لُكّيّ: پر گوشت مرد۔اللكيك جمع لِكاك: گنجان لشکر، سخت گوشت، موٹے سخت گوشت والا۔المُلَكَّك: موٹے سخت گوشت والا۔سكرانُ مُلتكٌّ: نشہ کی وجہ سے خشک۔

۲ـلكَّ ـلَكّاً الجلدَ: چمڑا رنگنا۔اللك جمع لُكاك و لُكوك: سرخ رنگ جس سے کھال رنگتے ہیں۔(ن): پودا جس سے گوند/لاکھ بناتے ہیں۔...... واللُكّ: مذکورہ پودے کی تلچھٹ یا نچوڑ، سرخ رنگ سے رنگی ہوئی کھالیں جنہیں چھیلا جاتا ہے۔اللَكّة من الجلود: سرخ رنگ سے رنگی ہوئی کھالیں۔اللكيك جمع لِكاك: کول تار، لک۔

۳ـلكَّ ـلكّاً اللحمَ: گوشت کو ہڈیوں سے جدا کرنا۔

۴ـاِلتكَّ فی کلامه: اپنے کلام میں غلطی کرنا۔...... فی حجته: حجت میں دیر لگانا۔

۵ـاللكّ جمع أَلكاك و لُكُوك (ع ح): ایک لاکھ (100000)، دس لمین۔اللكيك جمع لِكاك (ن): کمزور درخت۔

۶ـاللُكْلُك: پستہ قد، چھوٹا۔...... و اللُكالِك: بڑا اونٹ۔

○ لكَّ ـلَكّاهُ: کو گھونسا مارنا، مکا مارنا، طمانچہ مارنا، تھپڑ مارنا، موٹھ سے مارنا۔اِلتكَّ: بھینچا، گھسنا، کھچا کھچ بھرنا، دو چیزوں کے درمیان دبنا، راستہ رکنا، تل دھرنے کی جگہ نہ ہونا، بھیڑ بھاڑ ہونا، بھیڑ کرنا، غلطیاں کرنا، قواعد صرف ونحو کے خلاف بولنا۔اللَكّ جمع أَلكاك و لُكُوك: لاکھ (100,000) روپے وغیرہ۔لُكّ ولَكّ: رال، گوند، لاکھ (سیل کرنے کے لئے استعمال ہونے والی)

لكا: الملكَأَ ـلَكْأً بالسوط فلاناً: کسی کو کوڑے سے مارنا۔...... فلاناً: کو پچھاڑنا۔...... به الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔

۲ـلكَأَ ـلكأً الرجلَ: کو اس کا پورا حق دینا۔

۳ـلكِئَ ـلَكأً بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔...... بفلان: کے ساتھ ساتھ رہنا۔

۴ـتلكّأَ تلكُّواً عن الامر: میں دیر لگانا، توقف کرنا، سے رک جانا، کو چھوڑ دینا۔علیه: سے معذرت چاہنا، معافی چاہنا۔

○ لكَا ـلَكْواً: مارنا۔لكِيَ ـلَكاً ب: کسی جگہ رہنا، ٹھہر جانا، اقامت کرنا۔تلكّأَ فی: میں دیر کرنا، ست ہونا، تاخیر کرنا، وقت ضائع کرنا، ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متأمل ہونا، تامل کرنا۔...... تلكّأً: کوچہ گردی میں وقت ضائع کرنا، مارا مارا پھرنا، ہرزہ گردی کرنا، آوارہ گردی کرنا۔تلكّأَ فی الاداء: نادہندہ ہونا، اپنی مالی ذمہ داریاں پوری نہ کرسکنا۔مُتلكِّئ: ہچکچانے والا، دیر کرنے والا، دیر سے (کام) کرنے والا، تاخیری، ست، مٹھا، بعد از وقت، جس کے ذمہ بقایا جات ہوں، باقی دار۔

لكث: الملكَثَ ـلَكْثاهُ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔...... فلاناً: کو حد سے زیادہ زیر بار کرنا، پر بہت زیادہ بوجھ لاد دینا۔

۲ـلكِثَ ـلَكَثاً الوسخُ علیه و به: پر میل کا جم جانا۔...... البعیرُ: اونٹ کا منہ پر پھنسی والا ہونا۔اللكَث (مص): دودھ کے برتن کے کناروں پر جما ہوا میل، اونٹ کے منہ کی پھنسیاں۔ناقةٌ لكِثة: موٹی اونٹنی۔اللُكاث: اونٹ کے منہ میں نکلی ہوئی پھنسیاں۔

۳ـاللُكاث: چونے کے سفید چمکنے والے پتھر۔اللَكّاث: چونا بنانے والا۔اللُكاثِيّ: بہت سفید۔

لكح: لكَحَ ـلَكْحاهُ: کو مارنا، کو مکا مارنا۔...... هُ بلسانه: کو زبان سے چاٹنا (عوام کی زبان میں)۔

لكد: الملكَدَ ـلَكْداهُ: کو ہاتھ سے مارنا، کو دھکیلنا، پرے ہٹانا۔

۲ـلكِدَ ـلَكَداً الوسخ علی فلان و به: سے میل کا چمٹنا، سے میل کا لگا رہنا۔...... الشعرُ: بالوں کا چمٹنا۔لا لكِدَ قيدُهُ: بیڑی سے بخوبی نہ چل سکنا۔...... الغُلَّ: طوق کو سلجھانا۔...... فلاناً: سے چمٹنا، کے ساتھ لگا رہنا۔تلكّد فلانٌ: موٹے گوشت والا ہونا۔...... الشیءُ: چیز کے ایک حصہ کا دوسرے سے چمٹنا۔...... به او علیه الوسخُ: پر میل کا جم جانا۔...... فلاناً: کو گلے سے پکڑنا۔اِلتكَدَ فلاناً و بفلان: کے ساتھ لگا رہنا۔اللكِد: بخیل، بدخلق۔الالكَد: کمینہ قوم کے ساتھ چمٹا ہوا۔المِلْكَد: لکڑی کا بنا ہوا ہتھوڑا، موگرا، موسل دستہ، موگری۔

لكز: لكَزَ ـلَكْزاهُ: کو مکا مارنا۔لاكزهُ: ایک دوسرے کو مکے مارنا۔تلاكزا: ایک دوسرے کو مکے مارنا۔اللكِز: بخیل۔اللِكاز: چیتھڑا جو دھرے کے سوراخ میں اس کو تنگ کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے۔المُلكَز: ذلیل، جسے دروازوں پر دھکے دیئے جائیں۔

○ لكزَ ـلَكْزاً: مکہ مارنا۔...... ه: کو لات مارنا، ٹھوکر مارنا، لات مار کر ہٹانا، دھکیلنا۔لكِز: بخیلانہ، کنجوس، بخیل۔لِكاز: پن (pin)، کیل، میخ، کھونٹی، کھوٹا، چوب۔

لكس: کہا جاتا ہے رَجُلٌ شكِس لكِس: سخت بہت کم حکم ماننے والا۔

لكش: لكَشَ هُ بيده: کو ہاتھ سے مارنا (عوام کی زبان میں)۔...... الفرس بالركاب: گھوڑے کو رکاب چھونا (عوام کی زبان میں)۔

لكض: لكَضَ ـلَكْضاهُ: کو مکا مارنا۔

لكع: الملكَعَ ـلَكْعاً الولدُ: بچہ کا دودھ چھوٹنے کے قریب ہونا۔کہا جاتا ہے تركتهُ يلكع: میں نے اس کو کھانا پینا چھوڑا۔اللُكَع: چھوٹا بچہ۔

۲ـلكَعَ ـلَكْعاً لهُ العقربُ: کو بچھو کا ڈسنا۔...... الرجلَ: کو سخت وسست کہنا، کو کھری کھری سنانا۔اللُكاعة جمع لُكاع (ن): ایک خاردار پودا۔

۳ـلكِعَ ـلَكَعاً و لَكاعة: لئیم ہونا، بے وقوف ہونا۔...... لكعاً علیه الوسخُ: پر میل جم جانا، سے میل چمٹ جانا۔اللُكَع: میلا، بے وقوف (ح)۔بچھیرا، گدھے کا بچہ، غلام، لئیم، پکارتے وقت کہتے ہیں:

یا لُکَعُ: دو کو: یا ذوی لُکَع معرفہ بھی غیر منصرف ہے۔ اللُکَعَۃ: کمینہ عورت۔ رجلٌ لَکاعٌ: کمینہ مرد۔ امرأۃٌ لَکاعِ (ع کی زیر کے ساتھ): کمینی عورت، یہ لفظ صرف پکارنے کے وقت استعمال ہوتا ہے۔ اللکوع و اللکیع کمینہ۔ الألکع م لکعاء جمع لُکعٌ کمینہ۔ الـمَلکعان کمینہ۔ مَلکعانۃ کمینی۔

۴۔ الـلُـکَـع (ح) گھوڑا یا مادہ گھوڑا جس کے دانت گر گئے ہوں۔ اللُکَعَۃ (ح) گھوڑی۔ الألکع (ح) وہ گھوڑا جس کے دانت گر گئے ہوں۔

○ لَکِیع جمع لُکَعاء کمینہ، ذلیل، موجب رسوائی، شرمناک رسوائی کا موجب، گنہگار، فاسق، بداعمال، بدطینت، بدکار، فاجر، بے وقوف۔ لُکاعَۃ کمینگی، کمینہ پن، ذلت، بدکاری، فسق و فجور، بداعمالی، بدچلنی، سیاہ کاری۔

لکم: لَکَمَ ـُ لَکْماً ہُ کو مکہ مارنا، تھپڑ مارنا، ہٹانا۔ کہا جاتا ہے: لکم السیلُ عرض الجبل: سیلاب نے پہاڑ کے پہلو پر نشانات چھوڑے۔ لاکَمَ مُلاکَمَۃً ہُ ایک دوسرے کو مکے مارنا۔ اِلتَکَمَ متصادم ہونا۔ تلاکما ایک دوسرے کو طمانچے مارنا۔ اللکمۃ طمانچہ، تھپڑ، گھونسہ، مکا۔ خفٌّ لَکّامٌ سخت کھر جو پتھر توڑ دے۔ رجلٌ مِلکم مکے باز۔ خف مِلکم سخت کھر، سم۔ المُلکَّم پیوند لگا ہوا، چمڑے کا موزہ۔ حف مُلکَم سخت کھر جو پتھر توڑ دے۔ المَلکوم: مظلوم۔

○ لُکمۃ جمع لُکمات مکے یا گھونسے کی ضرب، گھونسا، مکا۔ مِلکَمَۃ: مکے بازی کے دستانے۔ مُلاکَمَۃ مکے بازی، مکے بازی کا مقابلہ۔ مُلاکِم: مکے باز، باکسر (boxer) انعام کے لئے لڑنے والا۔

لکن ا۔ لکِنَ ـَ لَکَناً و لُکنَۃً و لُکونَۃً و لُکنونَۃً الرجلُ گفتگو میں رکنا، زبان کا اٹکنا، ہکلانا صفت اَلکَن م لَکناء جمع لُکن۔ تلاکَنَ فی کلامہ ہنسانے کے لئے ہکلانا۔ اللُکنۃ (مص): ہکلاپن، گفتگو میں رکاوٹ۔

۲۔ لکِن اصل میں لاکن ہے۔ لکِن ثقیلہ سے مخفف ہے۔ حرف ابتداء کے طور پر دو جملوں یعنی جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور کبھی اس سے پہلے واو بھی آتا ہے۔ جیسے: قام عمرو و لکن زیدٌ جالس عمرو کھڑا ہے لیکن زید بیٹھا ہے۔ کبھی اپنی وضع اصلی سے خفیفہ ہوتا ہے اور اس وقت یہ حرف عطف ہوتا۔ اگر جملہ کو معطوف کرے تو اس کے ساتھ واو ہوتا ہے اور اگر اسکے بعد مفرد آئے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ واؤ نہ آئے بلکہ اس سے پہلے نفی یا نہی ہو۔ جیسے: ماقام زیدٌ لکن عمرو: زید کھڑا نہیں ہوا لیکن عمرو کھڑا ہوا۔ لاتضرب زیداً لکن عمراً: زید کو نہ مار لیکن عمرو کو مار۔ لَکِنَّ: اس کی اصل لاکِنَّ ہے۔ یہ حروف مشبہ بالفعل سے ہے۔ اسم کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع اور استدراک کے لئے آتا ہے: قام القوم لکنَّ زیداً جالس: لوگ کھڑے ہوئے لیکن زید بیٹھا ہوا ہے۔ تاکید کیلئے بھی آتا ہے۔ جیسے: لوزارنی زیدٌ لأکرمتہ لکنہ لم یجیٔ: اگر زید میرے پاس آتا تو میں اس کی عزت کرتا لیکن وہ نہیں آیا۔ اس طرح آپ نے لکِنَّ سے لو کے معنی کی تاکید کردی۔

۳۔ اللکَن جمع اَلکان لگن تانبے کا برتن جس میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں یا آٹا گوندھا جاتا ہے۔ (فارسی لفظ)

○ لُکنَۃ: ہکلانا، غلط الفاظ کا استعمال، صرف و نحو کے قواعد کے خلاف زبان، غلط تلفظ۔ لکَانَۃٌ فی الکلام: بولنے کا نقص، بولنے میں ہکلانے کا انداز۔ اَلکَن م لکنا جمع لُکن ہکلا، غلط بولنے والا۔

○ لَـکِـن (لاکـن)، لَکِنَّ (لاکِنَّ) لیکن، مگر، بہر صورت، بہرکیف، بہرحال۔ اس کے باوجود، تاہم باوجودیکہ، گوکہ۔

لکی: لَکِیَ یَلکَی لکًی بہ کا مشتاق ہونا، سے چمٹنا صفت لَکِیّ۔ ـــ بالمکان کسی جگہ اقامت کرنا۔ اللاکی عیب جو۔

○ لِکَی و لِکیما تاکہ، تا، کرنے کیلئے، کی غرض سے۔

لـم: لَمْ نہیں (حرف جزم) فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے: لم یأکُلْ: اس نے نہیں کھایا۔ لَمْ پر ہمزہ استفہام آئے تو نفی اثبات کے معنی میں ہو جاتی ہے۔ جیسے: اَلم اَقُل لک؟: کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ اس وقت یہ تقریر اور توبیخ کے معنی دیتا ہے۔ ہمزہ اور لَمْ کے مابین ف اور واو بھی آتا ہے۔ جیسے: اَفَلَمْ اَقُلْ لکَ اور اَوَلَمْ اُؤَدِّبْکَ تو کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، تو کیا میں نے تمہیں نہیں سکھایا تھا۔

لمّ: ا۔ لَمَّ ـُ لَمّاً الشیءَ: کو جمع کرنا، شامل کرنا۔ کہا جاتا ہے: لَمَّ اللہ شعثَ فلانٍ اللہ تعالٰی اس کے کاموں کی پراگندگی کی اصلاح فرمائے۔ ـــ بفلان کسی کے پاس مہمان بن کر اترنا۔ لُمَّ فلانٌ کسی کو کچھ جنون لاحق ہونا صفت: مَلموم۔ اَلَمَّ: چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ ـــ الغلام لڑکے کا بلوغ کے قریب پہنچنا۔ صفت مُلِمّ۔ ـــ ت النخلۃ: درخت کھجور کا پختگی کے قریب پہنچنا۔ ـــ الشیءَ: قریب ہونا۔ ـــ بہ مرض کو مرض لاحق ہونا۔ ـــ بالقوم و علی القوم: آکر لوگوں کے پاس کچھ دنوں کے لئے ٹھہرنا۔ ـــ بالمعنی معنی جان لینا۔ ـــ بالذنب: گناہ کرنا۔...... سالامر کو گہرائی سے نہ دیکھنا۔ ـــ بالطعام: کھانے میں اسراف نہ کرنا۔ کَادَ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے: اَلَمَّ یفعل کذا وہ ایسا کرنے کو ہوا۔ اِلتَمَّ فلاناً کے پاس جانا...... بالقوم: لوگوں کے پاس آکر ٹھہرنا۔ عوام کہتے ہیں: اِلتَمَّ الناسُ: لوگ اکٹھے ہوئے۔ اللامّۃ نظر بد، ہر خوف کی چیز۔ کہا جاتا ہے: اُعیذہ من کل ہامّۃٍ و لامّۃٍ: میری اللہ تعالٰی سے دعا ہے کہ اُسے ہر ضرر رساں جانور اور اندیشہ سے محفوظ رکھے۔ ہو یزورنا لِماماً: وہ کبھی کبھی ہمیں ملنے آتا ہے۔ اللَمُّ (مص): بہت لوگوں کا ہجوم۔ اللَمَم: قدرے جنون، گناہ کے قریب ہونا مگر مرتکب نہ ہونا، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اللَمَّۃ: لَمَّ کا اسم مرۃ، تختی، مجموعہ، زمانہ۔ کہا جاتا ہے: اصابتہ لَمَّۃٌ من الجن وہ مخبوط ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے: للشیطان لَمَّۃ: شیطان ایک قدم پر ہے، قریب ہے۔ اللُمَّۃ سفر کا ساتھی یا سفر کے ساتھی۔ کہا جاتا ہے: لاتسافروا حتی تصیبوا لُمَّۃً: جب تک ساتھی نہ ملیں سفر نہ کریں، یعنی اکیلے سفر نہ کریں، مونس و غمخوار، (واحد جمع کیلئے)۔ اللِمّۃ جمع لِمَمٌ و لِمامٌ: بالوں کی زلف جو کانوں کی لو سے بڑھی ہوئی ہو، پراگندہ بال۔ دارٌ لَمومۃٌ: گھر جس میں لوگ جمع ہوں۔ الـمِلَمّ سخت۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ مِلَمٌّ: مرد جو لوگوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کرے، اپنے لوگوں کو جمع کرنے والا۔ رجلٌ مِلَمٌّ مِعَمٌّ: لوگوں کے امور کی اصلاح کرنے والا اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے والا۔ الـمُلِمَّۃ سخت حادثہ و مصیبت، پکنے کے قریب کھجور۔ المَلموم: پگلا، مخبوط الحواس، اکٹھا کیا ہوا۔ کتیبۃ مَلمومۃ: ایک جگہ اکٹھا کیا ہوا فوجی دستہ۔ صخرۃٌ مَلمومۃ مگول اور سخت چٹان

۲۔ لَمّا مضارع سے مخصوص ہے اُسے جزم دیتا ہے۔ لَمْ کی طرح مضارع کو نفی کے مفہوم میں لاتا ہے اور ماضی میں بدل دیتا ہے لیکن پانچ باتوں میں اس سے جدا ہے (۱) اس کے ساتھ شرط کا کوئی لفظ نہیں آتا۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاتا: اِن لَمّا تقم بلکہ کہا جاتا ہے: ان لم تقم اگر وہ کھڑا نہ ہو۔ (۲) اس کی نفی حال تک ممتد ہوتی ہے۔ جب کہ لَمْ کی منفی میں اتصال و انقطاع کا

امکان ہوتا ہے جیسے: لم یکن شیئاً مذکوراً: وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اس لئے آپ کہہ سکتے ہیں: لم یکن ثم کان وہ نہ تھا مگر ہو گیا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لَمَّا یکن ثم کان: بلکہ کہا جائے گا: لَمَّا یکن و قد یکون: وہ ابھی تک تو نہ تھا مگر ہو سکتا ہے کہ ہو جائے۔ (۳) لمّا کی منفی میں لم کی منفی کے خلاف غالب معنی حال کے قریب ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں: لم یکن فلانٌ فی العام الماضی وہ گزشتہ سال نہیں تھا۔ جب کہ لما یکن کہنا جائز نہیں۔ (۴) لم کی منفی کے خلاف لمّا کی منفی کا ثبوت متوقع ہے۔ اگر آپ کہیں: لما یدو قوا طعاما یعنی انہوں نے اب تک کھانا نہیں چکھا، لیکن چکھنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ (۵) لمّا کی منفی کا حذف جائز ہے جیسے جئتُ قبورهم بدءاً او لما یعنی لما اکن بدءاً قبل ذلك میں شروع میں ان کی قبروں کے پاس گیا لیکن اس سے پہلے نہیں گیا۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ وصلت إلی بغداد ولم۔ جب کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ میں بغداد میں داخل نہیں ہوا۔ لما ماضی سے مخصوص ہے اور دو جملوں کا متقاضی ہے، پہلے جملہ کے ہونے کے ساتھ دوسرے جملہ کا ہونا وابستہ ہوتا ہے جیسے: لَمَّا جاءنی اکرمته جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کی عزت کی۔ کہا جاتا ہے اس میں وجود کے لئے صرف وجود ہے۔ بعض کہتے ہیں وجوب کے لئے وجوب ہے۔ کہا گیا کہ یہ دوسرے کے وقوع پر واقع ہونے والے فعل کا ظرف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ ظرف ہے اور حِیْنَ کے معنی میں ہے۔ یہ الاّ کے معنی حرف استثناء کے طور پر بھی آتا ہے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے: ان کل نفس لما علیها حافظ۔ یعنی اِلاّ علیها حافظ (نہیں کوئی نفس مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ اور ماضی پر لفظاً داخل ہوتا ہے معناً نہیں۔ جیسے: انشدك الله لَمَّا فعلت۔ بمعنی ما أسالك الا فِعْلَكَ: یعنی میں تجھے صرف تمہارے فعل کی قسم دیتا ہوں۔

اللِما (ح): ایک قسم کی مچھلی۔

۳۔ لَمْلَمَ الحجرَ: پتھر کو گیند کی طرح گول بنانا —— الشیءَ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تَلَمْلَمَ: (لَمْلَمَ کا مطاوع): یعنی گول ہونا، جمع ہونا۔ اللَمْلَم: ایک جگہ جمع ہونے والا بہت بڑا لشکر۔ اللُمْلُوم: گروہ، جماعت۔ رجُلٌ مُلَمْلَمٌ و جَمَلٌ مُلَمْلَمٌ: گٹھیلے بدن کا آدمی اور گٹھیلے بدن کا اونٹ۔ شَعَرٌ مُلَمْلَمٌ: تیل لگے بال۔ المُلَمْلَمَة: المُلَمْلَم کا مؤنث، ہاتھی کا سونڈ۔

○ لَمَّ ـلَمًّا ہ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، کو دوبارہ متحد کرنا، یکجا کرنا، کو ترتیب دینا، ترتیب سے رکھنا، کی مرمت کرنا۔ لُمَّ: تھوڑا سا پاگل ہونا۔ لَمَّ شعثَه: کو دوبارہ ترتیب سے رکھنا، سیدھا کرنا، ٹھیک کرنا، پاؤں پر کھڑے ہونے میں کی مدد کرنا۔ لَمَّ شَمْلَ القطیع: گلہ کو گھیر کر یکجا کرنا۔ اَلَمَّ ب: (تھکاوٹ، خوف کمزوری، مصائب وغیرہ کا) کسی پر نازل ہونا، کو مغلوب کرنا۔ —— ب: کے پاس تھوڑی دیر کے لئے جانا، سے ملاقات کو جانا، کے ہاں ٹھہرنا، رکنا، کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا، (کسی موضوع) پر بحث کرنا، کے بارے میں بات کرنا، پر گفتگو کرنا، بحث مباحثہ کرنا، کا جائزہ پیش کرنا، کو مُخْتَصَر طور پر بیان کرنا، (کسی موضوع) کے متعلق کچھ کہنا، سے واقف ہونا، آگاہ ہونا، کو جاننا، سے آگاہ ہونا، مطلع ہونا، (جرم) کا ارتکاب کرنا، (کھانا، مشروب) لینا، کھانا کھانا، مشروب پینا۔ اِلْتَمَّ: اکٹھا ہونا، جمع ہونا، متحد ہونا۔ ...... ہ: سے ملاقات کرنا، سے ملنے جانا۔ لَمَّة جمع لِمَام: مجموعہ، اجتماع، اکٹھ، جمع ہونا، ملاقات، مختصر ملاقات، مصیبت، آفت، ہلکا سا پاگل پن، پاگل پن کا لمس یا اثر۔ لِمَّة جمع لِمَم: گھنگریالے بال، زلف پر شکن، لٹ، بالوں کی لٹ، زلف، گیسو۔ لُمَّة: سفر کرنے والوں کا گروہ، گروہ، رسالہ، لوگوں کی جماعت۔ لَمَم: ہلکا پاگل پن۔ لِمامًا: کبھی کبھی، کبھی کبھار، گاہے گاہے، وقتاً فوقتاً، شاذ ہی، شاذ و نادر۔ اِلمام جمع المامات: طائرانہ نظر، خاکہ، خلاصہ، ملخص، تلخیص۔ لامّة نظر بد۔ مَلْمُوم: مجتمع، جمع کیا ہوا، اکٹھا کیا ہوا، ایک جگہ مرتکز، ہلکا سا پاگل۔ مُلِمّ بِ: سے مکمل آگاہ، واقف، کا ماہر، ماہر، صاحب نظر، دقیقہ شناس، مبصر، نکتہ رس نقاد، صاحب ذوق۔ مُلِمّ بالقراءة والکتابة: پڑھا لکھا، خواندہ۔ مُلِمَّة جمع مُلِمّات: مصیبت، آفت، بدبختی، حادثہ۔ لَمّا: جب، بعد، ہر گاہ، چونکہ، ابھی تک نہیں، نہیں۔ لَمَاجو درد کمر۔ لَمْبَة: لیمپ (lamp)، ٹیوب (ریڈیو کی)۔

لما: ۱۔ لَمَأَ ـلَمْأً ہُ و لَمَأَ علیه: پر ہاتھ مارنا۔ —— الشیءَ: کو دیکھنا، کو سب کا سب لینا۔ —— به: پر مشتمل ہونا۔ کہا جاتا ہے: ما یَلْمَأ فَمُهُ بکلمةٍ: اس کا منہ اس کی مغلظات کا زیادہ تر حصہ قبول نہیں کرتا۔ اَلْمَأَ اللِصُّ علی الشیء و بالشیء: کو چوری سے لے لینا۔ —— علی حقه: کے حق سے انکار کرنا۔ —— تِ الدوَابُ المکانَ: جانوروں کا جگہ کو خالی چھوڑ دینا۔ کہا جاتا ہے: کان بالارض مرعی فهاجت الدواب فالْمَأتهُ: زمین میں گھاس تھا جانوروں نے اسے کھا لیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ —— علی الشیء: پر مشتمل ہونا۔ —— بما فی الجفنة (بڑے پیالہ کی چیز) پر قبضہ کر لینا۔ کہا جاتا ہے: ما ادری این اَلْمَأَ من بلاد الله: مجھے معلوم نہیں کہ وہ اللہ کے کس ملک میں گیا۔ تَلَمَّأَ تَلَمُّوءاً ت الارضُ به و علیه: کو زمین کا گھیر لینا، چھپا لینا۔ اِلْتِمَاءٌ و اِلْتَمَأَ بما فی الجفنة: (بڑے پیالہ کی چیز) پر قبضہ کر لینا۔ المَلْمُوءَة: وہ جگہ جہاں کوئی چیز پائی جائے یا جہاں سے کوئی چیز لی جائے، جال۔

۲۔ اَلْتُمِیَ لونُ الرجل: مرد کے رنگ کا متغیر ہو جانا۔

لمج: ۱۔ لَمَجَ ـلَمْجًا الشیءَ: کو منہ کے اطراف سے کھانا۔ تَلَمَّجَ الرجُلُ: غذا سے پہلے کچھ کھانا۔ کہا جاتا ہے: رَأیتهُ یَتَلَمَّجُ بالطعام: میں نے اسے کھانا چکھتے ہوئے دیکھا۔ اللَمَاج: تھوڑی خوراک۔ کہا جاتا ہے: ما تَلَمَّجْتُ عنده بلماج: میں نے اس کے ہاں کچھ نہیں چکھا۔ اللَمِج: بہت کھانے والا۔ اللُمْجة جمع لُمَج: غذا سے پہلے کا ناشتہ۔ اللَمُوج: تھوڑی خوراک۔ اللَمِیج: بہت کھانے والا۔ المُلامِج: منہ کے اطراف۔

۲۔ کہا جاتا ہے: سَمْجٌ لَمْجٌ و سَمِجٌ لَمِجٌ و سَمِیْجٌ لَمِیْجٌ: بہت بدشکل۔ رمحٌ مُلَمَّجٌ: آزمایا ہوا نیزہ۔

○ تَلَمَّجَ: ہلکا ناشتہ کرنا۔ لُمْجَة: ہلکا ناشتہ، اشتہا پیدا کرنے والی چیز، چٹنی، اچار، چاٹ۔

لمح: لَمَحَ ـلَمْحًا البصرُ: نگاہ اٹھنا، —— الرجُلُ الشیءَ و الی الشیء: کو چوری سے دیکھنا، سرسری طور پر دیکھنا۔ اللَمْحَة: سرسری نظر۔ —— الشیءَ بالبصر: پر نگاہ ڈالنا...... لَمْحًا و لَمَحَانًا و تَلْمَاحًا النجمُ او البرقُ: ستارہ یا بجلی کا چمکنا صفت لامِحٌ و لَمُوحٌ و لَمَّاح۔ لَمَّحَ تلمیحًا إلی الشیء: کی طرف اشارہ کرنا۔ لامَحَ تهُ: کو چوری سے دیکھنا۔ اَلْمَحَ إلی فلانٍ: کی طرف چوری سے دیکھنا۔ —— الشیءَ: کو دزدیدہ نظر سے دیکھنا، کو چمکانا۔ —— الرجُلَ: کو دکھانا۔ اِلْتَمَحَ ہ: کو دزدیدہ نظر سے دیکھنا۔ اُلْتُمِحَ بصرهُ: نظر جاتی رہنا۔ اللامِح (فا): کہا جاتا ہے: هو لامحٌ عِطفِهِ: وہ خود بیں ہے۔ اللُمْح (مص): کہا جاتا ہے: لأُرِیَنَّكَ لَمْحًا باصِرًا: میں تمہیں واضح معاملہ دکھا کر رہوں گا، اس کا

اکثر استعمال وعدوں کے موقع پر ہوتا ہے۔ اللَمْحَة: لَمح کا اسم، الملامح کا مفرد، سرسری نظر۔ کہا جاتا ہے: رأیتہ لَمحةَ البرق: میں نے اسے بجلی چمکنے جتنی دیر دیکھا۔ ھو ابیضُ لَمّاحٌ: وہ بہت سفید ہے۔ الملامِح لمحة کی جمع: چہرے کے خدوخال، مشابہت۔ کہا جاتا ہے: فی فلان لمحةٌ من ابیہ او ملامِحُ من ابیہ: فلاں شخص خدوخال میں اپنے باپ کے مشابہ ہے، اس میں اپنے باپ کی مشابہت ہے۔

○ لَمَحَ ۔لَمْحًا ہ/الی: پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، پر چھچھلتی ہوئی نظر ڈالنا، پر سرسری نظر ڈالنا۔ ــ ہ/ ہ: کو دیکھنا، کا مشاہدہ کرنا، کی طرف توجہ کرنا۔ ان: آگاہ ہونا کہ ــ لَمحاً و لَمَحاناً و تَلْماحا: دمکنا، چمکنا، بھڑک اٹھنا، شعلہ فشاں ہونا، ٹمٹمانا۔ لَمَّحَ اِلی: کی طرف اشارہ کرنا، چوٹ کرنا، تعریض کرنا کہ اشارۃً کہنا کہ، کچھ یقین دلانا کہ، خیال دلانا کہ، اشارہ کرنا، تلمیح کرنا، کنایہ کرنا، کا ذکر کرنا۔ لَامَحَ ہ: پر اتفاقی یا دزدیدہ نظر ڈالنا۔ اِلْتَمَحَ ہ/الی: پر اتفاقیہ یا دزدیدہ نظر ڈالنا۔ لَمْح: سرسری نظر، چھچھلتی نظر، لحہ، آن، لحظہ، گھڑی۔ لمح البصر: سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر۔ فی لمح البصر، کلمح البصر، دون لمح البصر، فی اقل من لمح البصر: بجلی کی طرح، برق کی طرح، کوندے کی طرح، فوراً، فی الفور، آناً فاناً۔ لمحة: سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر، اتفاقی نظر، آنکھ کا اشارہ، روشنی کی دمک، تمتماہٹ، روشنی، چمک، بجلی کا شعلہ۔ فیہ لمحة من ابیہ: وہ اپنے والد کی طرح نظر آتا ہے، وہ اپنے والد جیسا ہے، وہ اپنے والد کے مشابہ ہے۔ لَمّاح: ٹمٹماتا ہوا، جھلکاتا ہوا، جھلک دکھانے والا، چمکتا ہوا۔ مَلامِح: خدوخال، چہرہ مہرہ، خصوصیات اوصاف، خارجی مظہر، شکل صورت۔ فیہ ملامح من ابیہ: وہ اپنے والد کے مشابہ ہے۔ مَلامِح و ظِلال: تصویر کے روشن اور تاریک حصے (Lights and Shades in painting) تلمیحاً: اشارۃً، بالواسطہ۔

لمخ: لَمَخَ ۔لَمْخاً ہ: کو طمانچہ مارنا۔ لَامَخَ مُلامَخَةً و لِماخاً ہ: ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ تَلَمَّخَ بکلام قبیح: گندی باتیں کرنا۔

لمد: لَمَدَ ۔لَمْداً ہ: سے انکساری کرنا، عاجزی کرنا۔ اَلْاَلْمَد و اللُّمْدان: ذلیل، عاجز۔

لمذ: ا۔ لَمَذَ ۔لَمْذاً: اطراف دہن سے کھانا۔
۲۔ لِماذا: کیوں؟ کس لئے؟ آخر کیوں؟ آخر کس لئے؟
(لام تعلیل ما استفہامیہ اور ذا اشارہ سے مرکب لفظ)۔

لمز: ا۔ لَمَزَ ۔لَمْزاً ہُ: پر عیب لگانا، کی طرف آنکھ وغیرہ سے اشارہ کرنا۔ لَامَزَ ہُ: سے کنایہ سے بات کرنا۔ اللُّمَزَة: بہت نکتہ چینی کرنے والا، سامنے عیب جوئی کرنے والا۔ المِلْمَاز: چغل خور، عیب گیر، بہت نکتہ چینی کرنے والا۔ اللُّمّاز: سامنے غیبت کرنے والے۔
۲۔ لَمَزَ ۔لَمْزاً ہُ: کو دور کرنا، ہٹانا، کو مارنا۔
۳۔ لَمَزَ ۔لَمْزاً ہُ الشیبُ: میں بڑھاپا ظاہر ہونا۔
۴۔ تَلَمَّزَ ہُ: سے مانگنا۔ ــ فی السیر: رفتار میں تیزی کرنا۔

○ لَمَزَ ۔لَمْزاً ہُ: کو آنکھ سے اشارہ کرنا، کی برائی کرنا، میں میخ نکالنا، میں کیڑے نکالنا، کی عیب جوئی کرنا، پر نکتہ چینی کرنا، پر اعتراض کرنا، پر تنقید کرنا، کو الزام دینا، کو قصور وار ٹھہرانا، کو ملامت کرنا، کی چغلی کھانا، پر تہمت لگانا، کو بدنام کرنا، کو رسوا کرنا۔ لُمَزَہ و لَمّاز: نکتہ چین، عیب جو، نکتہ چین، حرف گیر، عیب چین، عیب جو، معترض یا خوردہ گیر نقاد، تنقید نگار یا تبصرہ نگار، عیب نکالنے والا۔

لمس: لَمَسَ ۔لَمْساً ہُ: کو چھونا۔ ...... الشیءَ: چیز کا چھونے کے قابل ہونا۔ ــ زیداً امراۃً: زید کا کسی عورت سے نکاح کرانا۔ ــ الشیءَ: کو طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے: لہ شعاع یکاد یَلْمِسُ البصرَ: اس کی روشنی کی شعاع سے نظر چلی جانے لگتی ہے۔ لَامَسَ ہُ: ایک دوسرے کو چھونا۔ اَلْمَسَ فلاناً: کی ڈھونڈنے میں مدد کرنا۔ ...... زیداً امراۃً: زید کی کسی عورت سے شادی کرا دینا۔ تَلَمَّسَ الشیءَ: کو بار بار مانگنا۔ اِلْتَمَسَ الشیءَ من فلان: کسی سے چیز طلب کرنا۔ اللَّمْس (مص): چھونے کی قوت۔ کہا جاتا ہے: کواہُ لَمّاس: اس نے اسے دکھتی جگہ پر چھوا۔ اللِّماسة و اللُّماسة: اوسط درجے کی ضرورت۔ اللَّمُوس: منہ بولا بیٹا، حسب میں عیب رکھنے والا۔ اللمیس: نرم و نازک عورت۔ المُلامَسة (مص) فی البیع: کپڑے کو چھو کر بیع کو واجب جاننا۔ اَلْمَلْمَس: چھونا، چھونے کی جگہ۔ المَلْمُوس (مفع): کہا جاتا ہے: اِکاف ملموسُ الاَحْناء: ہموار اور رنگ و روغن کیا ہوا پالان۔ المَلْمُوسات: قوت لامسہ کی مدرکات، پہلی محسوسات۔ صحیفةُ المُتَلَمِّس (متلمس کا خط)، بدشگونی کی مثل، اس خط میں لکھا تھا: جب یہ شخص تمہارے پاس آئے اُسے قتل کر دینا۔ کواہ المُتَلَمِّسة: اس نے اس کی دکھتی ہوئی جگہ پر ہاتھ رکھا۔

○ لَمَسَ ۔لَمْساً ہ: کو چھونا، کو ہاتھ میں لینا، کو ہاتھ سے محسوس کرنا، کو انگلی سے چھونا، پر ہاتھ پھیرنا، کو ڈھونڈنا، طلب کرنا، کی تلاش کرنا، کو مانگنا۔ ......
ہ/الی: کو دیکھنا، دیکھنا کہ ...... ہ/ان: سے آگاہ ہونا، آگاہ ہونا کہ: لایُلْمَسُ: جسے چھوا نہ جاسکے، غیر محسوس۔ لَمَسَ الحقائق: معاملات کو اس طرح لینا جیسے وہ ہیں، حقائق کا سامنا کرنا۔ لَامَسَ ہ/ ہ: سے رابطہ میں ہونا، کو چھونا، محسوس کرنا، پر انگلی رکھنا، چھو کر معلوم کرنا ــ ھا: عورت سے جماع کرنا، صحبت کرنا، کو ہاتھ لگانا۔ تَلَمَّسَ ہ: کو محسوس کرنا، انگلی سے چھونا، کو چھو کر معلوم کرنا، کو ہاتھوں سے ڈھونڈنا، کو ٹٹولنا، کو اندھوں کی طرح تلاش کرنا، کو تلاش کرنا، کو طلب کرنا۔ تَلامَسَ: ایک دوسرے کو چھونا، باہم رابطہ میں ہونا۔ اِلْتَمَسَ ہ من: کی سے درخواست کرنا۔ ل: (کے لئے) ــ ہ من: کو سے مانگنا، طلب کرنا۔ ہ ل: کا کیلئے خواستگار ہونا، طالب ہونا۔ ــ ہ: کو مانگنا، کی نہایت تاکید سے درخواست کرنا، کو تلاش کرنا، طلب کرنا۔ ــ ہ/ہ: کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ لَمْس: محسوس کرنا، ٹٹولنا، چھونا، لمس، رابطہ۔ حاسة اللمس: چھونے کی حس، قوت لامسہ۔ لَمْسِی: لمس کے قابل، چھونے کے قابل، محسوس، قوت لامسہ سے متعلق۔ لُمْسِیة: کھجور جو ابھی پوری طرح نہ پکی ہو۔ لَمْسة جمع لمسات: نوک پلک درست کرنا۔ مَلْمَس: کیڑوں کے منہ کے بال یا روئیں جن سے وہ چھوتے اور ٹٹولتے ہیں، لمس، رابطہ، چھونے کی جگہ، چھوئی ہوئی جگہ، رابطہ کی جگہ۔ ناعمُ الملمس: چھونے میں نرم۔ مَلْمَسِی بمعنی لَمْسِی مَلْمُوس: چھوا ہوا، محسوس، چھونے کے قابل۔ مَلْمُوسات: محسوس اشیاء، چھونے سے قابل فہم یا قابل ادراک چیزیں۔ مُلْتَمَس جمع مُلتمسات: درخواست، عرضی۔

لمص: ا۔ لَمَصَ ۔لَمْصًا العسلَ و شبہَہٗ: شہد اور شہد جیسی کوئی چیز انگلیوں کے کنارے سے چاٹنا ــ فلاناً: کی چٹکی لینا۔ اَلْمَصَ الشجرُ: درخت کا انگلی سے پکڑنے کے قابل ہونا۔
۲۔ لَمَصَ ۔لَمْصًا فلاناً: کی نقل اتارنا، پر عیب لگانا، کا منہ چڑانا۔ اللَّمْص (مص): لوگوں کی غیبت کرنا۔ اللَّمُوص: جھوٹا، فریبی، غیبت کرنے والا، چغلی کھانے والا۔
۳۔ لَمَصَ ۔ لَمْصًا الصبیُّ: بچہ کا پیشاب کرنا۔
۴۔ اَلْمَصَ الکرمُ: انگور کی بیل کا نرم انگور والی ہونا۔

○ لَمَصَ ۔لَمْصًا ہُ: کو کوسنے دینا، کو برا بھلا کہنا، پر منہ

بتانا۔

لمط: لَمَطَ ـلَمْطًا بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ ـ فلانٌ: مضطرب ہونا۔ اِلْتَمَطَ بحقی: اس نے میرا حق لے لیا۔

لمظ: ا۔ لَمَظَ ـلَمْظًا: کھانے پینے کے بعد زبان کو ہونٹوں پر پھیرنا، کھانے کے بعد زبان سے دانتوں میں پھنسے ہوئے کھانے کا کھوج لگانا۔ ـ الماءَ: پانی کو زبان کے کنارے سے چکھنا۔ ـ فلانًا من حقِهِ: کسی کو اس کے حق میں سے بہت تھوڑا دینا۔ لَمَّظَهُ من حقه: کو اس کے حق میں سے بہت تھوڑا دینا۔ کہا جاتا ہے: لَمَّظَ فلانًا لُماظَةً: اس نے کسی کو تھوڑی سی چیز کا باقیماندہ حصہ چکھایا۔ اَلْمَظَ هُ: کے ہونٹوں پانی ڈالنا۔ ـ فلانًا: کو نیزے سے تھوڑی سی ضرب لگانا۔ ـ الفرسُ: گھوڑے کے نچلے ہونٹ کا سفید ہونا۔ تَلَمَّظَ الرجلُ: اپنی زبان ادھر ادھر پھیرنا، کھانے کے بعد زبان سے دانتوں میں پھنسے ہوئے کھانے کا کھوج لگانا۔ کہا جاتا ہے: تَلَمَّظَ بِذِکرِہٖ: اس نے اس پر عیب لگایا۔ ـ تِ الحیّةُ: سانپ کا اپنی زبان باہر نکالنا۔ اِلْتَمَظَ بشفتیه: ہونٹوں کو ملا کر آواز نکالنا۔ ـ الطعام: کھانا کھانا۔ ـ بحقه: کا حق لے لینا۔ ـ الشیءَ: چیز کو جلدی سے منہ میں ڈالنا۔ اللَمَظ: گھوڑے کے نچلے ہونٹ کی سفیدی۔ اللَماظ: چکھنے کی چیز۔ کہا جاتا ہے: ماله لَماظٌ: اس کے پاس چکھنے کو کچھ نہیں۔ ما ذقتُ لَماظًا: میں نے کچھ نہیں چکھا۔ شربهُ لَماظًا او لِماظًا: کو زبان کے کنارہ سے چکھنا۔ اللُماظَة: منہ میں کھانے کا باقیماندہ حصہ، تھوڑی چیز کا باقی حصہ۔ کہا جاتا ہے: ما الدنيا الا لُماظَة ایام: دنیا محض (چند دنوں کی) تھوڑی سی چیز ہے۔ اللُمظَة: گھی وغیرہ کی تھوڑی سی مقدار جو انگلی سے اٹھائی جا سکے، گھوڑے کے نچلے ہونٹ کی سفیدی یا دونوں ہونٹوں کی سفیدی، دل کا سیاہ نقطہ۔ الالمظ من الخیل: نیچے کے ہونٹ میں سفیدی رکھنے والا گھوڑا۔ مَلامِظ الانسان: ہونٹوں کا ارد گرد۔ المُتَلَمِّظ: متبسم۔

۲۔ اَلْمَظَ البعیرُ بِذَنَبِهِ: اونٹ کا دم کو ٹانگوں کے اندر دبانا۔ ـ هُ علی فلان: کو کسی پر غصہ دلانا۔ اِلْتَمَظَ بالشیءِ: میں لپٹنا۔

۳۔ اَلْمَظَ الرجلُ القوسَ: کمان پر تانت باندھنا۔

۴۔ اللَماظَة: فصاحت، چرب زبانی۔ اللَماظَة (ط): نُقل جو مشروب کے ساتھ پیش کیا جائے۔ عوام اسے ماظہ کہتے ہیں۔ التِلِمّاظ م تِلِمّاظَة: دوستی پر ثابت قدم نہ رہنے والا۔ التِلِمّاظَة: بڑھا نکنے والی، بچوں کی سی باتیں کرنے والی، بک بک کرنے والی۔

(ن) لَمَظَ ـلَمْظًا: ہونٹ چاٹنا، زبان پھیرنا۔ تَلَمَّظَ: ہونٹ چاٹنا، زبان پھیرنا۔ تَلَمَّظَ بِذِکرِہٖ: کی غیبت کرنا، کی برائی کرنا۔

لمع: ا۔ لَمَعَ ـلَمْعًا و لَمَعانًا و لُموعًا و لَمیعًا و تِلِمّاعًا البرقُ وغیرہ: بجلی وغیرہ کا چمکنا۔ ـ بیده او بثوبه او بسیفه: ہاتھ، کپڑے یا تلوار سے اشارہ کرنا۔ ...... الطائر بجناحیه: پرندے کا بازو پھڑ پھڑانا۔ ـ ضرعُ الناقة: اونٹنی کے تھن کا دودھ اترنے کے وقت رنگین ہونا۔ ـ فلانٌ البابَ: دروازے سے نکلنا۔ ـ فلانٌ بالشیءِ: کو لے جانا۔ لَمَّعَ النسجَ: کپڑے کو مختلف رنگوں کا بننا۔ اَلْمَعَ الفرسُ ونحوها: گابھن ہونے کی وجہ سے گھوڑی وغیرہ کے تھن کا چمکنا اور سر پستان کا سیاہ ہو جانا۔ ـ ت الشاةُ بذنبها: بکری کا دم اٹھانا تا کہ معلوم ہو کہ وہ گابھن ہو گئی ہے صفت مُلْمِعَة و مُلْمِع۔ ـ ت الانثی: مادہ کے پیٹ میں بچے کا حرکت کرنا۔ ـ إلی فلان بثوبه: کو کپڑے سے اشارہ کرنا۔ ـ الطائرُ بجناحیه: پرندے کا بازو پھڑ پھڑانا۔ ـ ت البلادُ: ملک کا خشک گھاس والا ہونا یا کثرت سے گھاس والا ہونا۔ ـ فلانٌ بالشیءِ و علیه: کو چرا کر لیجانا، کو غبن کرنا، خورد برد کرنا، میں خیانت کرنا۔ تَلَمَّعَ البرقُ وغیرهُ: بجلی وغیرہ کا چمکنا، روشن ہونا۔ ـ الشیءَ: کو غبن کرنا، خورد برد کرنا، میں خیانت کرنا، کو چرا لینا۔ اِلْتَمَعَ البرقُ وغیرہ: بجلی وغیرہ کا روشن ہونا، چمکنا۔ ـ الشیءَ: کو غبن کرنا، میں خورد برد کرنا، میں خیانت کرنا، کو چرا لینا۔ ـ القومَ: کو لیجانا۔ و اُلْتُمِعَ لونُهُ: کا رنگ اڑنا، متغیر ہونا۔ اللامع جمع لُمَّع (فا): کہا جاتا ہے: مابالدار لامعٌ: گھر میں کوئی نہیں۔ اللامِعَة جمع لَوامِع: لامع کا مونث۔ کہا جاتا ہے: ذهبت نفسُهُ لِماعًا: اس کی جان تھوڑا تھوڑا کر کے نکل گئی۔ اللُمعَة جمع لُمَع و لِماع: پودے کا مرجھایا ہوا حصہ، سیاہی کا دھبہ، اصلی رنگ سے مخالف رنگ۔ ـ من الجسد: جسم کے رنگ کی چمک۔ اللَمّاع: لامع کا اسم مبالغہ، بہت چمکدار۔ اللَمّاعة: سراب والا بیابان (ح): عقاب۔ اللَموع: چمکدار (ح) عقاب۔ الالْمَع و الالْمَعیّ: ذکی، تیز ذہن آدمی۔ الالْمَعِیَّة: ذکاوت۔ التَلْمیع جمع تلامیع فی الخیل وغیرها: گھوڑوں وغیرہ کے جسم پر دھبے ہونا جو جسم کے رنگ کے مخالف ہوں، کہا جاتا ہے: فیہ تَلْمیعٌ و تلامیعُ: اس میں کئی رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ خدٌّ مُلمَع: چمکدار رخسار۔ مِلْمَعا الطائر: پرندے کے بازو۔ ارضٌ مُلْمِعَة: زمین جہاں سراب چمکتا ہو۔ المُلَمَّعُ من الخیل وغیرها: اصل رنگ سے مخالف رنگ کا داغ رکھنے والا گھوڑا وغیرہ۔ ارضٌ مِلْمَعَةٌ و مَلْمَعَة: زمین جہاں سراب چمکتا ہو۔ الیَلْمَع جمع یَلامِع: بے بارش کی بجلی، سراب کہا جاتا ہے: فلانٌ اکذبُ مِن یَلْمَعٍ: وہ سراب سے زیادہ جھوٹا ہے، جھوٹے کو اس سے تشبیہ دے کر کہا جاتا ہے: انما هو یَلْمَعٌ: وہ تو ہے ہی جھوٹا۔ ـ من السلاح: چمکنے والا ہتھیار جیسے خود و زرہ۔ الیَلْمَعِیّ: ذکی، تیز فہم، سچ جھوٹ ملانے والا۔

۲۔ اللامِعَة جمع لَوامِع: بچے کی نرم چندیا۔ اللُمْعَة جمع لُمَع و لِماع: لوگوں کا ایک گروہ، زندگی کا تھوڑا سا گزارہ۔ کہا جاتا ہے: معه لمعةٌ من العیش: اس کے پاس گزران کے لئے اتنا ہے جس سے وہ مطمئن ہو سکے۔ اللَمّاعَة: بچے کی نرم چندیا۔

(ن) لَمَعَ بسیفهٖ: تلوار ہلانا۔ لَمَعَ بیده: ہاتھ ہلانا، لہرانا۔ لَمَعَ فی رأسه خاطِرٌ: اس کے ذہن میں یکا یک آیا، بجلی کی طرح خیال وغیرہ کوندگیا۔ لَمَّعَ هُ: کو چمکانا، جگمگانا یا ٹمٹمانا، کو چمک دینا، کو رگڑ کر صاف کرنا، صیقل کرنا، جلا دینا۔ اَلْمَعَ: ہاتھ لہرانا۔ إلی: کو واضح کرنا، کا خیال دلانا، بتانا، کہنا، مطلع کرنا، تعریض کرنا، کی طرف اشارہ کرنا۔ اِلْتَمَعَ: چمکنا، دمکنا، تمتمانا، شعاعیں نکلنا۔ لَمْع و لَمَعان: چمک دمک، ٹمٹماہٹ، جھلک، تمتماہٹ، سرخی، روشنی۔ لُمْعَة جمع لُمَع و لِماع: تمتماہٹ، جھلک، چمک، شعلہ، تابانی، آب و تاب، طباعی، ذہانت، درخشانی، تابندگی، تنویر، کرن، شعاع، تبسم، مسکراہٹ، چمکتی ہوئی سطح، چمک دمک، شان و شکوہ، صیقل، جلا، کچھ، تھوڑا سا۔ لَمّاع: چمکدار، چمکیلا، درخشاں، تابندہ، ذہین، فطین، طباع، چمکتا، دمکتا، روشن، منور، تاباں، بھڑکیلا، دودھیا کیا ہوا، صیقل کیا ہوا، پالش کیا ہوا، مشین میں دبا کر شکن وغیرہ درست کیا ہوا (calendered)۔ جلد لماع: صاف چمڑا (patent leather)

لمق: ۱۔ لَمَقَ ـلَمْقًا و لُموقًا هُ: کو لکھنا۔

۲۔ لَمَقَ ـلَمْقًا و لُموقًا هُ: کو مٹانا۔ ...... عینهُ: کی آنکھ پر تھپڑ مارنا، آنکھ پر کوئی چیز پھینکنا، آنکھ کو کانی کرنا۔

۳۔ لَمَقَ ـلَمْقًا و لُموقًا الیه: کی طرف دیکھنا۔ ...... الیه ببصره: پر نظر ڈال کر اس کو دیر تک دیکھنا۔

۴۔ تَلَمَّقَ: کو چکھنا۔ اللَماق: تھوڑی سی چکھنے کی چیز۔ کہا

جاتا ہے: ماذاقتُ لَمَاقًا: میں نے کچھ نہیں چکھا۔ ما بالارض لَمَاقٌ: زمین میں چراگاہ نہیں۔

۵۔ لَمَقُ الطریق: راستے کا بیچ۔ کہا جاتا ہے: اخذ فی لَمَقِ الطریق: وہ راستے کے درمیان چلا۔ الیَلْمَق: روئی دار قبا۔

لمك: لَمَكَ ـُ لَمْكًا العجینَ: آٹا نرم گوندھنا۔ تَلَمَّكَ البعیرُ: اونٹ کا جبڑوں کو ہلا ہلا کر کھانا۔ اللَّمَاك: چکھنے کی چیز (صرف نفی میں مستعمل ہے) کہا جاتا ہے: ماتَلَمَّكَ بلَمَاكٍ: اس نے کچھ نہیں چکھا۔ واللُّمَاك و اللَّمْك: سرمہ۔ المَلْمِیك: سرگین آنکھوں والا۔ الیَلْمَك: قوی جوان (یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں ی زائد ہے)۔

○ لَمْلَمَ ہ: کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ مُلَمْلِمَة: ہاتھی کی سونڈ۔

لمو: لَمَا یَلْمُو لَمْوًا الشیءَ: سب لے لینا۔ اللُّمَة جمع لُمَات: گروہ، تین سے دس تک کی تعداد کے ساتھی، ہم عمر ہم شکل، نمونہ۔

لمی: ۱۔ لَمِیَ یَلْمِی لَمًى و لَمِیَ یَلْمَی لَمًى الغلامُ: لڑکے کا سیاہ ہونٹوں والا ہونا۔ صفت اَلْمَی مونث لَمْیَاء۔ اِلْتَمَی اِلتماءً لونُہٗ: کے رنگ کا متغیر ہونا۔ اللَّمَی و اللِّمَی و اللُّمَی: ہونٹ کے اندرونی حصہ میں سیاہی یا گندمی رنگ جسے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ الاَلْمَی م لَمْیَاء جمع لُمْیٌ: سیاہ یا گندمی رنگ کا ہونٹ رکھنے والا۔ رمحٌ اَلْمَی: مضبوط گندم گوں نیزہ۔ ظلٌ اَلْمَی: گھنا سیاہ سایہ۔ شجرٌ اَلْمَی: گھنے سایہ کا درخت۔ غلامٌ اَلْمَی: ٹھنڈے تھوک والا لڑکا۔ لِثَةٌ لَمْیَاء: کم خون یا کم گوشت والا مسوڑھا۔

۲۔ اَلْمَی اِلْمَاءً اللِصُّ بکذا: کو چرا کر لیجانا، چرانا۔ تَلَمَّی تِ الارضُ بہ و علیہ: زمین اس پر حاوی ہوگئی۔ اِلْتَمَی اِلتماءً بہ: پرا کیلے قبضہ کرنا۔

لن: لَنْ: حرف مضارع کو نصب دیتا ہے اور مستقبل منفی کا معنی دیتا ہے۔ نحو: لَنْ اَفعلَ المنکر مابقیت: جب تک زندہ رہا برا کام نہیں کروں گا۔ دعا کے معنی میں بھی آتا ہے: لَنْ تزالوا ملجأً الفقیر: ہمیشہ اس فقیر کے ملجا و ماوی بنے رہو۔

○ جَدِیْدٌ لَنْج: بالکل نیا (brandnew) لُنْدُرَہ: لنڈن۔ لَنْدَن: لنڈن (برطانیہ کا ایک شہر)۔ لَنْش جمع لَنْشَات: لانچ (launch)، چھوٹا سٹیمر، موٹر بوٹ۔ لِینِنْغراد: لیننگراڈ (روس کا ایک شہر)۔

لہ: ۱۔ لَہَّ ـُ لَہًّا الشِعرَ: اچھے عمدہ شعر کہنا۔

۲۔ لَہْلَہَ لَہْلَہَةً النساجُ الثوبَ: جولاہے کا کپڑا باریک بنانا۔ (ہَلْہَلَہٗ کا الٹ ہے)۔ تَلَہْلَہَ الثوبُ: کپڑے کا باریک بنا جانا...... الکلأ: تھوڑی سی گھاس کے درپے ہونا۔ اللَّہْلَہُ من الثیاب والکلام و الشِعر: ردی کپڑا، کلام یا شعر۔ اللُّہْلُہ جمع لَہَالِہ: کشادہ زمین جس میں سراب دور سے تھرتا نظر آئے۔ بلدٌ لُہْلُہٌ: وسیع ملک جس میں سراب بڑھتا ہوا نظر آئے۔ اللَّہْلَہَہ: کپڑے کی کمزوری۔ اللُّہْلُہَة: کشادہ زمین۔

۳۔ اللُّہْلُہ جمع لَہَالِہ: بدشکل۔ اللَّہْلَہَة: کسی بات سے رجوع۔

لہب: ۱۔ لَہِبَ ـَ لَہَبًا و لَہْبًا و لَہِیبًا و لُہَابًا و لَہَبَانًا ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ لَہَبًا و لَہَبَانًا الرجلُ: پیاسا ہونا صفت لَہْبَان۔ لَہَّبَ النارَ: آگ بھڑکنا۔ اَلْہَبَ النارَ: آگ بھڑکانا۔ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑ کر گرد و غبار اٹھانا۔ البرقُ: بجلی کا مسلسل کوندنا۔ فی الکلام: کو جلدی سے کہہ ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: اَلْہَبَہٗ للامر: کو پر بھڑکانا، مشتعل کرنا۔ تَلَہَّبَ ت النارُ: آگ کا بھڑک اٹھنا۔ کہا جاتا ہے: فلان یَتَلَہَّبُ جوعًا: فلاں شخص بھوک سے بھڑک رہا ہے۔ اِلْتَہَبَ ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ علیہ: پر غضبناک ہونا اور غصہ سے جلنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ یَلْتَہِبُ جُوعًا: فلاں شخص بھوک سے جل رہا ہے، بھڑک رہا ہے۔ اللَّہَب (مص): آگ کا شعلہ، بلند گرد و غبار۔ اللُّہَاب (مص): پیاس۔ اللَّہَبَان (مص): گرمی کی شدت، گرم دن، پیاس۔ اللُّہْبَة: پیاس، خالص سفیدی، عوام اس لفظ کو شعلہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اللَّہِیب (مص): آگ کی تپش، آگ کی گرمی، جلتے ہوئے جسموں سے نکلنے والا سیال مادہ۔ الاُلْہُوب: گھوڑے کی تیز رفتاری جس سے گرد و غبار اٹھے یا کھر سے آگ نکلے۔ الاِلْتِہَاب (طب): سوجن، آماس۔ المِلْہَب: تیز رفتار گھوڑا جو دوڑتے ہوئے گرد و غبار اٹھائے۔ المَلْہَب: نہایت خوبصورت، گھنے بالوں والا۔ المُلْہَب من الثیاب: کم سرخی والا کپڑا۔

۲۔ اللِّہَابَة: ایک قسم کی چادر جس میں پتھر رکھ کر بوجھ یا ہودج کی ایک طرف کو نیچا کیا جاتا ہے۔ اللِّہْب جمع اَلْہَاب و لُہُوب ولِہَاب و لِہَابَة: دو پہاڑوں کے درمیان کی کشادگی یا پہاڑ کی دراڑ۔

○ لَہِبَ ـَ لَہَبًا و لَہْبًا و لُہَابًا و لَہِیبًا و لَہَبَانًا: مشتعل ہونا، بھڑک اٹھنا، جل اٹھنا، جلنا، آگ بگولا ہو جانا، جوش میں آنا، طیش میں آنا، روشن ہونا، بھڑکنا، شعلہ زن ہونا۔ لَہَّبَ و اَلْہَبَ ہ: کو جلانا، سلگانا، آگ لگانا، مشتعل کرنا، بھڑکانا جذبات برانگیختہ کرنا، روشن کرنا، تپانا، کو برانگیختہ کرنا، اکسانا، جوش میں لانا، حرکت دینا، ہلانا، طیش میں لانا۔ تَلَہَّبَ بمعنی لَہِبَ: تیز شعلہ زن ہونا، مشتعل ہونا، جلتا ہوا ہونا، شعلہ فشاں ہونا، ملتہب ہونا، جلنا (مجازاً رخساروں، غصہ، پیاس وغیرہ کا) جلنا، بھڑکنا، آگ بگولا ہونا، (پیاس کیلئے) تڑپنا۔ اِلْتَہَبَ بمعنی تَلَہَّبَ: نیز آگ پکڑ لینا، بھڑک اٹھنا، لال پیلا ہونا، سوزش ہونا۔ لَہَب و لَہِیب و لُہَاب: لو، بھبوکا، شعلہ، لپٹ، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑک، جوش، اشتعال، آب و تاب، جھلملاتی ہوئی تیز روشنی۔ لَہْبَان مونث لَہْبَی جمع لِہَاب: جس کے حلق میں پیاس سے کانٹے پڑ گئے ہوں۔ اِلْہَاب: آگ سلگانا، جلانا، آگ لگنے سے بھڑکنا، جل اٹھنا، آتش گیری، آتش زنی، ورم، آماس، سوزش، جلن۔ اِلْتِہَابُ الشُعَب: حلق کی سوجن، نرخرے کی نالیوں کا ورم (bronchitis)۔ اِلْتِہَابِی: سوزان، محرق، آتش افروز، اشتعال انگیز، برانگیختہ کرنے والی (تقریر وغیرہ) سوزش اور ورم پیدا کرنے والی، آتش گیر، جلد بھڑک اٹھنے والا، تندمزاج، شعلہ خو۔ قطنٌ مُلْتَہِب: تیزابی روئی، بارودی روئی (guncotton)۔

لہت: اللاھوت: اللہ، خدا، رب، دیو، دیوتا، دیوی۔ عِلمُ اللاھوت: علم الٰہی، علم ذات، علم معرفت، دینیات، علم کلام۔ اللاھوتی: علم الٰہی کا، علم معرفت کا، دینیات کا، دینیاتی، عالم دین، ماہر دینیات، متکلم۔

لہث: لَہَثَ ـَ لَہْثًا و لُہَاثًا الکلبُ وغیرہٗ: پیاس یا تھکن کی وجہ سے کتے وغیرہ کا ہانپ کر زبان نکالنا۔ لَہِثَ ـَ لَہْثًا و لُہَاثًا الکلبُ وغیرہ: بمعنی لَہَثَ۔ لَہَثًا و لَہَثَانًا و لَہَاثًا الرجلُ: پیاسا ہونا صفت مذکر: لَہْثَان صفت مونث لَہْثَی۔ اِلْتَہَثَ الکلبُ: بمعنی لَہَثَ۔ اللُّہَاث (مص): پیٹ میں پیاس کی گرمی، موت کی شدت۔ کہا جاتا ہے: ھو یقاسی لُہَاثَ الموت: وہ موت کی سختی سے دوچار ہے۔ اللُّہْثَة: پیاس، تھکاوٹ، تھکن۔

○ لَہَثَ ـَ لَہْثًا و لُہَاثًا: پیاس یا تھکن سے زبان باہر نکالنا، ہانپنا، کی سانس پھولنا، مشکل سے سانس لینا۔ لُہَاث: ہانپنا، سانس پھولنا۔ لُہَاثُ الموت: نزع کا غرغرہ، موت کی اذیت۔ لَہْثَان م لَہْثَی: ہانپنے والا، پھولی ہوئی سانس والا، پیاسا سا، پیاس یا تھکن سے زبان باہر نکالنے والا۔

لہج: ا۔ لَہِجَ ۔لَہَجًا بالشیءِ: کا شیفتہ ہونا۔ صفت لَہِج و لاہِج۔ ۔ الفصیل اُمَّہٗ: جانور کے بچے کا ماں کے تھنوں کو چوسنا۔ ۔ الفصیل بِاُمِّہٖ: جانور کے بچے کا ماں کا دودھ پینے کا عادی ہونا۔ صفت لاہِج۔ اَلْہَجَ فلانًا بالشیءِ: کو کسی چیز کا شیفتہ بنانا۔ ۔ الرجلُ: اپنی ماؤں کے دودھ پینے کے عادی بچوں والا ہونا۔ ۔ الفصیلَ: بچے کے منہ میں لکڑی باندھنا تاکہ دودھ نہ پی سکے۔ اَلْہِجَ بالشیءِ: کا شیفتہ ہونا۔ اللَّہْجَۃ: زبان یا نوک زبان، مادری زبان۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ فصیحُ اللہجۃِ و صادقُ اللہجۃ فلاں شخص زبان کا فصیح یا سچا ہے۔ المُلْہَجُ (مفع): سونے والا، کام نہ کر سکنے والا۔

۲۔ لَہَّجَ القومَ: لوگوں کو ناشتہ کھلانا۔ اللُّہْجَۃ: ناشتہ۔

۳۔ اِلْہاجَّ اِلْہِیجاجًا الشیءُ: چیز کا خلط ملط ہونا۔ ۔ تْ عینُہٗ: کی آنکھ کا نیند سے بند ہونا، اونگھنا۔ ۔ اللبنُ: دہی کا پوری طرح نہ جمنا۔

۴۔ لَہْوَجَ الشیءَ: کو خلط ملط کرنا، ملانا۔ ۔ الامرَ: کام کو مستحکم نہ کرنا، ادھورا کرنا۔ ۔ الشواءَ: گوشت کو اچھی طرح نہ بھوننا، نیم پختہ رکھنا۔ شِواءٌ مُلَہْوَجٌ: اچھی طرح نہ بھنا ہوا گوشت۔ کہا جاتا ہے: حدیثٌ مُلَہْوَجٌ و رأیٌ مُلَہْوَجٌ: غیر محکم بات اور رائے۔ تَلَہْوَجَ الشیءَ: کی جلدی کرنا۔ ۔ اللحمَ: گوشت کو نیم پختہ رکھنا اچھی طرح نہ بھوننا۔

۵۔ تَلَہْجَمَ بالشیءِ: کا مشتاق ہونا۔ ۔ الطریقُ: راستے کا واضح نشان والا ہونا۔ اللَّہْجَم: کشادہ، چلتا ہوا راستہ، بڑا گھونسلا۔

○ لَہِجَ ۔لَہَجًا ب: کیلئے وقف ہونا، مخصوص ہونا، سے لگاؤ ہونا، کا بہت شائق ہونا، دلدادہ ہونا، کا عاشق ہونا، پر تلا ہوا ہونا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا، کا خواہاں، متمنی یا آرزومند ہونا، کے لئے سرگرم ہونا، کے پیچھے پاگل ہونا، کو ہمیشہ یا جوش اور ولولے سے کرنا۔ لَہِجَ بالثناءِ علیہ: کی تعریف کے پل باندھنا، جوش اور ولولے سے کی تعریف وستائش کرنا۔ لَہِجَ بذکرہ: کا ہمیشہ ذکر کرنا، تعریف کے ساتھ مسلسل کسی کا نام لینا۔ لہج بشکرہ: کا بہت بہت شکریہ یا تعریف کرنا۔ لہج بالضراعۃ: عاجزانہ معذرتوں سے کام لینا۔ اَلْہَجَ لِسانَہٗ بالشکر: سے بہت بہت شکریہ کہلوانا۔ اِلْہاجَّ: دودھ جمنا، دہی جمنا۔ لہجۃ: نوک زبان، زبان، انداز تکلم، لہجہ، طرز سخن بولی، مقامی زبان، مخصوص علاقہ کی بولی، بھاشا۔ بلہجۃ العاتب: ملامت آمیز طریقے سے، سرزنش کے طور پر، ملامت آمیز لہجہ میں۔

شدیدُ اللہجۃ: شدید یا سخت زبان میں، سخت لفظوں میں لکھا ہوا۔ لُہْجَۃ: اشتہا انگیز چیز، بھوک تیز کرنے والی چیز (appetizer)۔

لہد: ا۔ لَہَدَ ۔لَہْدًا ہُ الحِمْلُ: کو (بوجھ کا) بوجھل کرنا اور دبانا صفت مفعولی: مَلْہود و لَہِید۔ ۔ دابّتَہٗ: جانور کو تھکا کر دبلا کرنا۔ ۔ فلانًا: کو ذلت کی وجہ سے ہٹانا، دور کرنا، دھکیلنا، پستانوں یا مونڈھوں کی جڑ میں مارنا یا چھونا، کو آنکھ مارنا یا آنکھ سے اشارہ کرنا۔ لَہَّدَ فلانًا: کو خوب دبانا۔ اَلْہَدَہٗ: پر ظلم کرنا۔ ۔ الی الارض: بوجھ سے زمین کی طرف جھکنا۔ ۔ بہ: کو ذلیل کرنا، حقیر سمجھنا۔ ۔ بفلان: ایک آدمی کو پکڑ کر دوسرے آدمی کو اسے مارنے دینا۔ اللَّہْد (مص): ناپسندیدہ مرد، اونٹوں کی چھاتیوں میں چوٹ وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی شگافتگی، لوگوں کی ٹانگوں اور رانوں میں پیدا ہونے والا مرض۔ اللَّہِید (جانور) جس پر زیادہ بوجھ لدا ہوا ہو یا دہ تھکا ہوا ہو۔ المُلَہَّد (مفع): رجلٌ مُلَہَّدٌ: کمزور، ذلیل و حقیر، دروازوں پر دھکے دیا ہوا۔

۲۔ لَہِدَ ۔لَہْدًا الشیءَ: کو کھانا یا چاٹنا۔ اللَّہِیدۃ: ایک قسم کا نرم حلوا۔

۳۔ اللُّہاد: ہچکی، سسکی، ہکی، ٹھنڈی سانس۔

○ لَہَدَ ۔لَہْدًا ہُ: پر بہت زیادہ بوجھ لادنا، کو حد سے زیادہ زیر بار کرنا، سے زیادہ محنت کرانا۔

لہذ: ا۔ اللُّہْذَب: ہمیشہ رہنے والی چیز۔

۲۔ لَہْذَمَ ہُ: کو کاٹنا۔ تَلَہْذَمَ ہُ: کو کاٹنا۔ ۔ الشیءَ: کو کھانا۔ اللَّہْذَم جمع لَہاذِم و لَہاذِمۃ: تیز کاٹنے والی تلوار، بھالا، دانت وغیرہ۔ اللَّہاذِمۃ: چور (جمع کے طور پر)۔

○ لَہْذَم: تیز، نوکیلا، نوکدار۔

لہز: ا۔ لَہَزَ ۔لَہْزًا الشیءُ فلانًا: کسی شی کا کسی کے اندر ظاہر ہونا۔ ۔ القومَ: لوگوں میں مل جل جانا۔ ۔ ہُ الشیبُ: پر بڑھاپا ظاہر ہونا۔ صفت مَلْہوز۔ ۔ ہُ بالرمح: کے سینہ میں نیزہ مارنا۔ ۔ فلانًا: کو مکا مارنا یا کو کان کے نیچے کی ہڈی اور گردن پر مکا مارنا۔ ۔ الفصیلُ ضرعَ اُمِّہٖ: بچے کا دودھ پیتے وقت اپنی ماں کے تھنوں پر ٹکر مارنا۔ لَہَّزَ تَلْہِیزًا ہُ: کو کان کے نیچے کی ہڈی اور گردن پر مکا مارنا۔ اللاہِز (فا): پہاڑ اور ٹیلہ جو راستہ کو تنگ اور دشوار گزار بنا دیں، دو پہاڑ جب اس قدر قریب ہوں کہ بیچ میں ایک گلی کی طرح فاصلہ رہ جائے تو دونوں پہاڑوں کو لاہزان کہتے ہیں۔ اللَّہِز: سخت۔ اللِّہاز: حرج وغیرہ کے سوراخ کو تنگ کرنے کا چھوٹا سا چیز۔ اللہزمۃ: جبڑے کی ابھرتی ہوئی ہڈی۔ المِلْہَز: جبڑے کی ہڈی اور گردن پر مکا مارنے والا۔ المَلْہوز (مفع): گتھے بدن والا، جبڑے کی ہڈی پر داغ لگا ہوا۔

۲۔ لَہْزَمَہٗ: کی جبڑے کی ابھرتی ہوئی ہڈیاں کاٹنا۔ ۔ الشیبُ خدّیہ: کے رخساروں پر سفید بال ظاہر ہونا۔ اللِّہْزِمَۃ جمع لَہازِم: کان کے نیچے، جبڑے کی ابھری ہوئی ہڈی، یہ دو ہوتی ہیں جنہیں لہزمتان کہا جاتا ہے۔

لہس: ا۔ لَہَسَ ۔لَہْسًا الشیءَ: کو چاٹنا۔ الصبیُّ ثدیَ امّہ: بچے کا اپنی ماں کے پستان کو بے چوسے چاٹنا۔ ۔ علی الطعام: کھانے پر لالچ کی وجہ سے بھیڑ کرنا۔ لاہَسَ مُلاہَسَۃً علی الطعام: کھانے پر ٹوٹ پڑنا، کھانے پر بھیڑ کرنا۔ ۔ القومُ الی الشیءِ: کی طرف جانے میں تیزی کرنا اور بھیڑ کرنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ یلاہس بنی فلان: فلاں شخص فلاں قبیلہ کے لوگوں کے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللاہِس اللّواہِس کا واحد، پھرتیلا، چست۔ اللُّہْسَۃ: چاٹنے کے قابل چیز۔ کہا جاتا ہے: مالك عندی لُہْسَۃٌ: میرے پاس تمہارے لئے کوئی چیز نہیں۔ اللُّہاس و اللُّہاسۃ: تھوڑا سا کھانا۔

۲۔ لَہْسَمَ ما علی المائدۃ: دسترخوان پر سب کچھ چٹ کر جانا۔ اللَّہاسِم واحد لُہْسُم: وادیوں کی تنگ جگہیں۔

لہط: ا۔ لَہَطَ ۔لَہْطًا ہُ: کو تھپڑ مارنا۔ ۔ ہُ بسہم: کو تیر مارنا۔ ۔ بالشیءِ: کو جلدی جلدی کھانا (عوام کی زبان میں)۔ ۔ بہ الارضَ: کو زمین پر پٹخ دینا۔ ۔ ت اُمُّہٗ بہ: کو اس کی ماں کا جننا۔ اللاہِط (فا): گھر کے دروازے پر پانی چھڑکنے اور اس کو صاف رکھنے والا۔

۲۔ لَہَطَ ۔لَہْطًا الثوبَ: کپڑا سینا۔

۳۔ لَہْطَۃٌ من الخبر: افواہ۔

لہع: ا۔ لَہِعَ ۔لَہَعًا و لَہاعۃً الرجلُ: ہر ایک سے بے تکلف ہونا۔ صفت لَہِع و لِہْع و لَہِیع۔ ۔ فی الکلام: چپڑ چپڑ باتیں کرنا۔ اللُّہاعۃ: غفلت، سستی۔ اللَّہِیعَۃ: غفلت، سستی۔ (کہا جاتا ہے: رجلٌ فیہ لَہِیعۃٌ: غفلت اور سستی کرنے والا) خرید وفروخت میں سستی۔

۲۔ اللَّہِیع: کارگزاری میں تیزی۔

لہف: ا۔ لَہِفَ ۔لَہَفًا علی مافات: کھوئی ہوئی چیز پر افسوس کرنا۔ صفت لَہِف و لَہِیف۔ لُہِفَ لَہْفًا: مظلوم ہونا، ظلم کیا جانا۔ لَہَّفَ فلانٌ نفسَہٗ او اُمَّہٗ:

وا نفساه و اُمیّاهُ اوروا لهفتاهُ کہنا (آہ میں کتنا بدقسمت ہوں، اف میری ماں، افسوس کتنا نقصان ہوا) کہنا۔کہا جاتا ہے: لَهَّفَ اُمَّه: اس نے اپنے ماں باپ پر غم کیا، وہ اپنے ماں باپ پر رو دیا، وہ اپنے ماں باپ پر رنجیدہ ہوا۔اِلْتَهَفَ: حریص ہونا، لالچ کرنا۔ تَلَهَّفَ علیہ: پر غمگین ہونا، افسوس کرنا۔اِلْتَهَفَ فلانٌ: کسی افتاد یا غم کی وجہ سے جلنا......ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔اللاهِف (فا) م لاهف و لاهِفَة: مظلوم، مضطر، فریادی، افسوس کرنے والا۔کہا جاتا ہے: هو لاهِفُ القلب: وہ شکستہ دل ہے۔اللاهِفَة جمع لاهفات و لَواهِف لاهف کا مؤنث۔اللهف (مص) یالَهْفَ فلان: فلاں پر کس قدر رنج و افسوس ہے۔یالَهْفی علیك و یالَهْفَة و یالَهْفًا و یالَهْف ارضی و سمائی علیك و یالهفاهُ: مجھے تم پر کس قدر رنج ہے، ہائے افسوس، تیرے اوپر افسوس ہے یہ کس قدر خسارہ کی بات ہے، وغیرہ۔اللَّهْفان مونث لَهْفی جمع لَهافی و لُهُف: غمگین، غمناک، حزین، غم انگیز، دردناک، اداس، دلگیر، مغموم، اندوہگین، پریشان، بے چین، بے آرام، فکر مند، تشویش ناک۔اللَّهْفَة: لہف کا اسم مرۃ۔کہا جاتا ہے: یالَهْفَةُ و یالَهْفَتاهُ و یالَهْفاهُ: افسوس یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔اللَّهُوف م اللَّهُوفَة: غمگین، غمناک، حزین، غم انگیز، دردناک، پریشان، بے چین، بے آرام، فکرمند، مغموم، دلگیر۔اللَّهِیف جمع لِهاف: مضطر، غمگین، مغموم۔رجلٌ لهیف القلب: دل جلا، دل شکستہ۔المَلْهُوف: غمگین جو مال کھو بیٹھا ہو یا اس کا کوئی قریبی داغ مفارقت دے گیا ہو، مظلوم فریادی۔رجلٌ مَلْهُوفُ القلب: دل جلا، دل شکستہ۔

۲۔اللَّهُوف مونث اللَّهُوفَة: لمبا، دراز، موٹا۔

◌ لَهِفَ ـ لَهَفًا علی: کسی کھوئی چیز کیلئے آہیں بھرنا، پر پچھتانا، متاسف ہونا، غم کرنا، کا ماتم کرنا، کے لئے رنجیدہ ہونا، پر دکھ پہنچنا، کے بارے میں پریشان ہونا، جھلانا، جھنجلانا، کے متعلق سخت پریشان یا فکر مند ہونا۔ تَلَهَّفَ بمعنی لَهِفَ نیز تَلَهَّفَ علی/ل: کا شائق، شوقین، متمنی یا کے لئے سرگرم ہونا، کے لئے بیقرار ہونا، بے تاب ہونا۔لَهَفٌ: رنج، ملال، دلگیری، آزردگی، کلفت، غم، الم، سوگ، ماتم، افسوس، آہ وزاری۔یالَهَفَ یا لهفا: اوہ، کس قدر افسوس کی بات ہے، بہت بری بات ہے، ہائے، افسوس، صد افسوس، حیف۔یالَهَفی علیك: اوہ، میں تمہارے لئے کس قدر رنجیدہ ہوں۔لَهْفَة: آہ بھرنا، آہیں بھرنا، بے چینی، رونا، چلانا، آہ وزاری، نوحہ، فریاد، آہ و فغاں، غم و افسوس، فکر، تشویش، پریشانی، اضطراب، خوف، خدشہ، تردد، پچھتاوا، غم، افسوس، رنج، آزردگی، ملال، الم، سوگ، ماتم، چاہ، اشتیاق، آرزو و تمنا، شوق، خواہش، بے تابی، بے صبری۔لَهِیف جمع لِهاف: متاسف، غمگین، رنجیدہ، افسردہ، ملول، آزردہ، پریشان۔ لاهِف: پریشان، غمگین، غم زدہ، افسردہ دل، تشویش مند، خائف، اندیشناک، پریشان۔ ملهوفٌ علی/الی: کیلئے یا کا حریص، کا شائق، متمنی، شوقین کے لئے سرگرم، کا خواہاں، خواستگار، طالب۔ مُتَلَهِّف: آرزومند، متمنی، مشتاق، پرآرزو، خواہش مند، آرزو مند، تردد خیز، تشویشناک، پریشان کن، بے چین، متفکر، بے تاب۔

لهق: ا۔لَهَقَ ـُ و لَهِقَ ـَ لَهَقًا و لَهَقًا الشیءُ: بہت سفید ہونا۔تَلَهَّقَ الشیءُ: بہت سفید ہونا۔اللَّهاق: سفید بیل، ہر سفید چیز۔کہا جاتا ہے: اَبْیَضُ لَهاقٌ: یعنی بہت سفید۔اَبْیَضُ لِهاقٌ: بہت سفید۔بقرة لَهاق: بہت سفید گائے، بیل۔اللَّهِق و اللَّهَق م لَهِقَة و لَهَقَة جمع لَهَقات و لِهاق: سفید بیل، ہر سفید چیز۔کہا جاتا ہے اَبْیَضُ لَهِق و لَهَقٌ: بہت سفید۔مُلَهَّقُ اللون: سفید رنگ کا۔

۲۔تَلَهَّقَ الرجلُ: زیادہ باتیں کرنا۔

◌ لَهِقَ: برف جیسا سفید ہونا۔

لهم: ا۔لَهِمَ ـَ لَهْمًا و لَهَمًا الشیءَ: کو ایک مرتبہ ہی نگل جانا، ہڑپ کر جانا۔ الماءَ: پانی کا گھونٹ لینا۔اَلْهَمَهُ الشیءَ: کو کچھ نگلوانا۔ اللّٰهُ فلانًا خیرًا: اللہ تعالی کا کسی کو بھلائی کی وحی کرنا، تلقین کرنا، کی توفیق دینا۔تَلَهَّمَ و اِلْتَهَمَ الشیءَ: کو یکبارگی نگل جانا۔ اللُّهام: لشکر جرار۔اِسْتَلْهَمَ اللّٰهَ خیرًا: اللہ تعالی سے دعا کرنا کہ وہ اسے خیر کی توفیق دے۔کہا جاتا ہے: استلهمُ اللّٰهَ الرشادَ: میں اللہ تعالی سے راستبازی کے فیضان کی دعا کرتا ہوں۔رجلٌ لَهِمٌ و لُهَمٌ: کھاؤ، پیٹو۔اللُّهْمَةُ من السویق: مٹھی بھر ستو۔ اللِّهَمّ: بہت خیر والا، بہت بخشش والا، کھاؤ، پیٹو، سبقت لیجانے والا گھوڑا یا مرد، بڑا سمندر۔رجلٌ لِهَمٌّ جمع لِهَمُّون: وزنی رائے کا مالک، سخی، بہت قابل۔(یہ عورتوں کی صفت کے طور پر نہیں آتا)۔رجلٌ لَهُوم: کھاؤ، پیٹو۔اللُّهَیْم: بڑی دیگ۔و اُمُّ اللُّهَیْم: موت، بخار، مصیبت۔الاِلْهام (مص): دل میں ڈالی ہوئی بات، الہام۔المُلْهَم و المُلْهَم من الرجال: کھاؤ، پیٹو۔

۲۔اِلْتَهَمَ لَوْنُهُ: رنگ بدل جانا۔

۳۔اللِّهِم جمع لُهُوم: بوڑھا، عمر رسیدہ۔

۴۔لَهْمَسَ ما علی المائدة: دسترخوان سے سب کچھ کھا لینا۔

۵۔اللُّهْمُوم جمع لَهامِیم: عمدہ گھوڑا یا انسان، لشکر عظیم، بڑی تعداد، بہت برسنے والا بادل، بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔لَهامِیم الناس: سخی لوگ، بزرگ یا سردار لوگ۔اللُّهْمُوم: سبقت لیجانے والا گھوڑا یا مرد۔

◌ لَهِمَ ـ لَهْمًا و لَهَمًا و تَلَهَّمَ و اِلْتَهَمَ ہ: کو نگل جانا، ہڑپ کر جانا، کھا جانا، کے بڑے بڑے نوالے کھانا، جلدی جلدی ہڑپ کر جانا، چیڑ چیڑ کھانا، (آگ کا) کسی چیز کو ضائع کرنا، ختم کرنا، تباہ کرنا۔اَلْهَمَ ہ ہ: کو کوئی چیز نگلوانا، کو کے دل میں ڈالنا، کو کی تلقین کرنا، کو کا الہام کرنا۔اِسْتَلْهَمَ ہ: سے ایسی چیز طلب کرنا جس کا فیضان یا تاثیر ہو یا مشورہ طلب کرنا۔ ـــ ہ: کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنا ـــ ہ ہ: اللہ تعالی سے کسی چیز کی دعا کرنا، اللہ تعالی کی طرف کیلئے رجوع کرنا۔لَهِم و لَهُوم: لالچی، حریص، ندیدہ، بلا کا شائق، کھاؤ، پیٹو، پرخور۔اِلْهام جمع اِلْهامات: تخلیقی تحریک، نیک خیال، جس کی تاثیر یا فیضان ہو، وحی، الہام، القاء۔مُلْهَم: جو کسی کے کہنے پر ہو۔

لهن: لَهَّنَ القومَ و للقوم: قوم کو ناشتہ کھلانا۔اَلْهَنَ هُ: کو سفر سے واپس آنے پر کوئی تحفہ دینا۔تَلَهَّنَ الرجلُ: ناشتہ کرنا۔اللُّهْنَة جمع لُهَن: ناشتہ، سفر سے واپسی پر دیا جانے والا مسافر کا تحفہ، سفر سے واپس آنے والے کو دیا جانے والا تحفہ۔

لهو: الَهَا یَلْهُو لَهْوًا الرجلُ: کھیلنا۔ ـــ بہ: کا شوقین ہونا۔ ـــ لَهْوًا و لُهُوًّا ات المرأةُ الی حدیث الرجل: عورت کا مرد کی باتوں کو پسند کرنا اور اس سے مانوس ہونا۔ ـــ لُهِیًّا و لِهْیانًا عن الشیءِ: سے غافل ہونا، کا ذکر چھوڑنا۔لَهِیَ یَلْهَی لَهًا عنه: سے غافل ہونا، کا ذکر چھوڑنا اور اس سے منہ پھیرنا۔ ـــ بکذا: سے محبت کرنا۔کہا جاتا ہے: اِلْهَ لَهٗ کما یَلْهَی لَكَ: اس سے وہی کچھ کر جیسے وہ تجھ سے کرتا ہے۔لَهَّی تَلْهِیَةً ہ عن کذا: کو سے مشغول کر دینا، کا خیال ہٹا دینا۔ ـــ ہ بکذا: کا سے دل خوش کرنا، کا سے جی بہلانا۔لاهَی مُلاهاةً الشیءَ: کے قریب ہونا ـــ الغلامُ الفطامَ: بچہ کا دودھ چھڑانے کے قریب پہنچنا ـــ ہ: کے قریب ہونا، سے جھگڑا کرنا۔اَلْهَی اِلْهاءً فلانٌ الشیءَ: کو عاجزی سے

چھوڑ دینا۔ ــــ ہُ اللعبُ عن کذا: کو کھیل کا کسی چیز سے مشغول رکھنا، یا سے غافل کرنا۔ تَلَهَّی تَلَهِّیًا بکذا: کو بھول جانا، اپنے آپ کو سے موڑنا پھیرنا۔ ــــ بالشیء: سے جی بہلانا، دل بہلانا۔ تَلَاهَی تلاهِیًا بالمَلَاهِی: کھیل کود میں مشغول ہونا۔ ــــ القومُ: آپس میں کھیلنا۔ اِلْتَهَی الرجُلُ بالشیء: سے کھیلنا ــــ عنه بغیرہ: دوسری باتوں یا کاموں میں مشغول ہونا۔ اِسْتَلْهَی اِسْتِلْهَاءً صاحبَهُ: ساتھی کا انتظار کرنا، کو ٹھیرانا۔ اَللَّهْوُ: کھیل، بہلاوا، مشغلہ، شغل، غافل کرنے کی چیز، اولاد، عورت، طبل۔ اللَّهْوَة: لها کا اسم مرۃ، عورت جس سے دل بہلایا جائے۔ کہا جاتا ہے فلانٌ لَهُوٌّ عن الخیر: فلاں شخص بھلائی سے بہت غافل ہے۔ الأُلْهُوَة و الأُلْهِیَّة و التَّلْهِیَة: بہلاوا، شغل، کھیل۔ المَلْهَی: لہو و لعب، کھیل، کھیل کا زمانہ، کھیلنے کی جگہ، کھیل کا میدان۔ کہا جاتا ہے هذا مَلْهَی القوم: یہ قوم کی اقامت گاہ ہے۔ هذا مَلْهَی الاثافی: یہ وہ جگہ ہے جہاں تین پتھروں کا چولہا بنا کر کھانا پکایا جاتا ہے۔ المِلْهَی جمع مَلَاهٍ: کھیل کی چیز۔ آلات المَلَاهِی: موسیقی کے آلات۔

۲۔ اَلْهَی اِلْهَاءً الرَّحَی و فی الرَّحَی و اللرَّحَی: چکی میں غلہ ڈالنا۔ ــــ الرجُلُ: بہت اور بہتر بخشش دینا۔ اِسْتَلْهَی اِسْتِلْهَاءً الشیءَ: کو زیادہ لینا، نگلنا۔ اللَّهَاة جمع لَهَوَات و لَهَیَات و لُهِیّ و لِهِیّ و لَهًا و لَهَاءٌ و لِهَاءٌ: حلق کا کوا۔ اللُّهَاء: مقدار۔ کہا جاتا ہے هُمْ لُهَاءُ مائة: وہ سو کے لگ بھگ ہیں۔ اللُّهْوَة و اللُّهْوَة جمع لُهًی: چکی کا غلہ، عطیہ، تحفہ، افضل عطیہ، مٹھی بھر مال۔ اللَّهَوِیّ: حلق کے کوے کے متعلق۔ الحرفان اللَّهَوِیَّان: ق۔ ک۔ اللُّهْیَة: تحفہ، بہترین تحفہ۔

۳۔ لَهْوَجَ: اس کے مادہ کا ذکر لہج کے مادہ کے بعد آچکا ہے۔

۴۔ لَهْوَق لَهْوَقَةً و تَلَهْوَق الرجُلُ: بناوٹی سخی، دیندار وغیرہ بننا۔ ــــ فی العمل و الکلام: کام یا گفتگو اچھی طرح نہ کرنا۔ رجُلٌ لَهْوَقٌ: بناوٹی سخی اور بہادر۔

○ لَهَا ـ لَهْوًا و لُهَاب: سے دل بہلانا، سے خیال ہٹانا، سے وقت گزاری کرنا، کھیلنا، دل بہلانا، فضول وقت ضائع کرنا، بیکار باتوں میں وقت کھونا۔ ــــ بوقته: اپنا وقت ضائع کرنا، فضول باتوں میں وقت گزارنا۔ ــــ: لطف اٹھانا، دل لگی کرنا، اچھا وقت گزارنا۔ ــــ الی / ب: میں خوش ہونا، سے لطف اندوز ہونا۔ ــــ ب: سے محظوظ ہونا، لطف اٹھانا، متمتع ہونا، کا مزہ اٹھانا، کو مرغوب بنانا۔

لَهِیَ لَهًی و لِهْیَانًا عن: سے توجہ ہٹانا، کو بھولنے کی کوشش کرنا، کو بھول جانا، فراموش کرنا، کو خیال سے اُتارنا، کو یاد نہ رکھنا، سے لاپروائی کرنا، بے التفاتی کرنا، کو چھوڑ دینا، سے دست بردار ہونا، قطع تعلق کرنا، سے غافل ہو جانا۔ لَهِیَ ـ لَهًا ب: کو پسند کرنا، سے محبت کرنا، کا دلدادہ ہونا، سے محبت ہو جانا، کے بارے میں کے پیچھے پاگل ہو جانا۔ ــــ عن: سے توجہ ہٹالینا، سے غافل ہو جانا، کو بھول جانا، فراموش کر دینا، چھوڑ دینا، سے دست بردار ہو جانا، سے قطع تعلق کر لینا، پر کوئی توجہ نہ دینا، سے لاپروائی کرنا۔ لَهَّی ہ ب: کو سے خوش کرنا، محظوظ کرنا، کا سے دل بہلانا، کو سے خوش کرنا، کو کی تفریح کرانا، میں کی دلچسپی پیدا کرنا۔ ...... ہ عن: کی سے توجہ ہٹانا، کو سے غافل کرنا، کو سے دور رکھنا، کو سے پھیرنا، کا ذہن سے دور لیجانا۔ لَاهَی ہ: کے قریب ہونا۔ اَلْهَی بمعنی لَهَّی۔ تَلَهَّی و تَلَاهَی: سے اپنا دل بہلانا، سے اپنا وقت گزارنا، میں مسرت حاصل کرنا، میں خوش ہونا۔ ــــ ب عن: میں سے خیال ہٹانا۔ اِلْتَهَی: بمعنی تَلَهَّی و تَلَاهَی نیز ــــ ب: سے کھیلنا، دل بہلانا، شغل کرنا۔ دُورُ اللَّهْو و اَمَاکِنُ اللهو: مقامات تفریح، کھیل تماشوں کی جگہیں، دل بہلاوے کے مراکز۔ مَلْهَاة: محظوظ کرنے کی چیز، طربیہ، بزمیہ۔ مَلْهَاة عامیة: مقبول ناٹک، عام پسند مزاحیہ۔ مَلْهًی جمع مَلَاهٍ: تفریح کی جگہ، دل لگی کی جگہ، دل بہلاوے کا مرکز، کھیل، تفنن، تفریح، تماشہ، سیر تفریح، وہ چیز جس سے خیال بٹ جائے۔ ضریبة الملاهی: داخلہ ٹیکس، دل بہلاوے کا ٹیکس۔ مِلْهًی جمع مَلَاهٍ: کھیلنے کی چیز، کھلونہ جمع (ملاهٍ و آلات الملاهی: آلات موسیقی۔ مُلْهٍ: دل بہلانے والا، خوش کرنے والا، پُرلطف، دلچسپ، فرحت انگیز، مسرور کن، مرغوب خوش آئند، پسندیدہ، خوش گوار، پُر مذاق، پُرلطف، ظریفانہ۔

لو: لَوْ: یہ حرف مندرجہ ذیل طریقوں پر استعمال ہوتا ہے۔ (۱) زمانہ ماضی میں شرط کے معنی کے لئے جیسے لو جاءنی لاکرمته (اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کی عزت کرتا)۔ (۲) زمانہ مستقبل میں شرط کے معنی کے لئے۔ جیسے لو تلتقی اصداونا بعد موتنا: کاش ہمارے اصدا موت کے بعد ملیں، اس صورت میں جب شرط مستقبل سے متعلق ہو تو لو (اِن) کے معنی میں ہوتا ہے اور مضارع کو جزم نہیں دیتا۔ (۳) اگر اس کے بعد مضارع آئے تو اس کا معنی ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے لو تقوم اقوم یعنی لو قمتَ قمتُ میں۔ (۴) أَن کے مقام پر مصدری حرف ہوتا ہے مگر نصب نہیں دیتا۔ اس کا اکثر استعمال وَدَّ یَوَدُّ کے بعد ہوتا ہے۔ جیسے وَدُّوا لو تاتیهم اور یودُّ احدُهم لو یعمرّ: جیسے انہوں نے چاہا کہ تو ان کے پاس آئے اور ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھادی جائے۔ (۵) تمنّی کے لئے آتا ہے اور اس کا جواب ف کے ساتھ منصوب ہوتا ہے جیسے: لو تاتِینی فتحدِّثَنی: کاش تو میرے پاس آتا اور مجھ سے باتیں کرتا۔ (۶) عرض کے لئے بھی آتا ہے جیسے اَلَّا۔ اس کا جواب بھی ف کے ساتھ منصوب ہوتا ہے جیسے لو تنزل عندنا فتصیب خیرا: اگر تو ہمارے پاس آتا تو بہتری پاتا۔ (۷) تقلیل کے لئے جیسے تصدقو اولو بظلفٍ مُحْرَقٍ: (تم خیرات کرو خواہ جلے ہوئے کھر کی) خیرات کرو خواہ تھوڑی ہو۔

○ لَوْ: اگر (فرضی شرط کے ساتھ) لَوْ أن: اگر (خیالی شرط کے ساتھ) لولا: اگر نہ۔ لولانا: اگر ہمارے لئے نہ ہوتا۔ فیمالَوْ: اس صورت میں کہ۔ وَلَوْ: اگرچہ، گو، باوجودیکہ، جو، یوں تو، خواہ ہی کیوں نہ۔ (تمنائی): کاش، اگر ذرا۔ لو یعلم: کاش وہ جانے، کاش وہ جانتا۔

لوب: ۱۔ لَابَ یَلُوبُ لَوْبًا و لُوَابًا و لَوَبَانًا الرجُلُ او البعیرُ: (مرد یا اونٹ کا) پیاسا ہونا، پانی کے گرد اگرد پھرنا، اور اس تک نہ پہنچ پانا۔ اس سے اسم اللَّوْب واللُّوب و اللُّؤُوب و اللُّوَاب ہے۔ اَلَابَ اِلَابَةً الرجُلُ: پیاسے اونٹوں والا ہونا۔ اللَّائِب جمع لُؤُوب و لُوب (فا): کہا جاتا ہے اِبِلٌ لُوبٌ و نخلٌ لوبٌ و لوائبُ: پانی سے دور پیاسے اونٹ اور کھجور کے درخت۔ اللُّوَاب (مص): لعاب۔

۲۔ لَوَّبَ تَلْوِیبًا ہُ: میں خوشبو ملانا یا کو خوشبو ملنا۔ المُلَاب: زعفران سے مشابہ خوشبو۔

۳۔ اللَّابَة جمع لَابَات و لاب: پتھریلی زمین، سنگلاخ زمین، سیاہ رنگ کے اونٹوں کا مجموعہ۔ اللُّوب: دیگ میں پھرنے والا گوشت کا ٹکڑا۔ (ح): شہد کی مکھی۔ اللُّوبَة جمع لُوب: سنگلاخ زمین، علیحدہ رکھے گئے لوگ جن سے مشورہ نہ لیا جاتا ہو۔ اللُّوباء اللوبیاء و اللوبیا (ن): باقلا، لوبیا، پھلی۔ المُلَوَّب (مفع): پیچ دار لوہا۔

۴۔ اللَّوْلَب جمع لَوَالِب: پیچ، پیچ دار کیل۔ اللَّوْلَبِیّ: پیچدار، چکردار، مرغولہ دار، پیچ کی شکل کا۔ المُلَوْلَب: سرمہ لگانے کی سلائی۔

لَوْلَب جمع لَوَالِب: سکریو screw۔ پیچ مخروطی چکر، چکر دار کمانی، کوئل سپرنگ (coilspring)، کمانی (srping)، دھرا، (مجازاً) اصل محرک، مرکزی نقطہ، بنیادی نکتہ۔ دَرَجٌ لَولَبِیٌّ: چکردار سیڑھی۔

لوت: لَاتَ یَلُوتُ لَوْتًا الرجُلَ: بغیر پوچھے بتانا۔ الخبرَ: خبر چھپانا، روکنا۔ فلاناً: کا حق کم کرنا۔ اللَات: ایک بت کا نام۔ لَاتَ: لیس کے مشابہ ایک حرف۔ اس کے بعد صرف ایک معمول کا ذکر کیا جاتا ہے اکثر محذوف مرفوع ہوتا ہے جیسے: ولاتَ حینَ مَناص: یہ جملہ دراصل یوں ہے: ولات الحینُ حینَ مَناصٍ: یہ بچ نکلنے یا فرار ہونے کا وقت نہیں۔ اس کا وقت نکل چکا ہے۔

لوث: ا۔ لَاثَ یَلوثُ لَوْثًا العمامةَ علی رأسه: سر پر عمامہ لپیٹنا۔ الضبابُ بالجبل: کُہر کا پہاڑ کو ڈھانک لینا۔ دارہٗ: گھر پر رہنا۔ بفلان: کے پاس پناہ لینا۔ به الناسُ: کے گرد جمع ہونا۔ فلانٌ: گھومنا۔ الشیءَ: کو منہ میں چھپانا، کو پانی میں بھگونا، کو ملانا۔ ثوبَه بالطین: کے کپڑے کو مٹی میں لتھڑنا۔ ......فی الامر: میں دیر کرنا۔ عن الحاجة: حاجت میں سستی کرنا۔ کہا جاتا ہے: لَاثَ لَوثًا من الکلام: کھل کر بات نہ کرنا، بات کی وضاحت نہ کرنا۔ مالاثَ فلانٌ أن غَلَبَ فلاناً: وہ غالب آنے سے نہ رکا۔ لَوَّثَ یَلَوِّثُ لَوْثًا فی الامر: میں دیر کرنا، تاخیر کرنا۔ لَوَّثَ تَلوِیثًا الشیءَ: کو بھگونا۔ ......التبنَ بالقتّ: بھوسے کو چارے میں ملانا۔ ثیابَهٗ بالطین: کپڑوں کو کیچڑ سے لتھیڑنا۔ الماءَ: پانی کو گدلا کرنا۔ الامرَ: کو مشتبہ کرنا۔ فلاناً عن کذا: کو سے روکنا۔ اَلَاثَ اِلَاثةً مالَهٗ بفلان: اپنا مال کسی کے سپرد کرنا۔ اَلْوَثَ اِلْوَاثًا ت الارضُ: زمین کا خشک زمین میں سبز چارہ اگانا۔ تَلَوَّثَ تَلَوُّثًا زیدٌ بعمرو: (زید کا عمرو) کے پاس پناہ لینا اور نفع کی خاطر ساتھ رہنا۔ ثوبُهٗ بالطین: کپڑے کا کیچڑ سے لتھڑنا۔ اِلْتَاثَ اِلْتِیَاثًا بردائه: چادر میں لپٹنا۔ بالدم: خون میں آلودہ ہونا، لتھڑنا۔ علیه الامرُ: پر معاملہ کا پیچیدہ ہونا۔ البعیرُ: اونٹ کا موٹا اور مضبوط ہونا۔ فی العمل: میں دیر کرنا۔ فی کلامه: بات کو گڈمڈ کرنا۔ اظہار مافی الضمیر نہ کرسکنا۔ فلانا عن کذا: کو سے روکنا۔ نباتٌ لائثٌ: گنجان پودے۔ اللُوثُ: زبان کا نقص، حماقت، جنون کا اثر۔ اللَوث (مص): نامکمل اور کمزور ثبوت۔ اللَوث: ڈھیلا ہونا، ڈھیلا پن۔

اللُوَاثُ: پلیتھن، خشک۔ اللُوثة: کمزوری، گوشت اور چربی کی زیادتی، دیر۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ ذو لُوثةٍ: سست اور کمزور مرد۔ کہا جاتا ہے: به لُوثةٌ: اس میں اثر جنون ہے۔ اللَوثة: لاث کا اسم مرہ، حماقت۔ اللُواثة: پلیتھن، ہر چیز میں آلودہ ہونے والا جماعت، گروہ۔ اللُوَیثة: جماعت گروہ۔ کہا جاتا ہے: إن المجلس یجمع لُوَیثةً من الناس: مجلس میں ملے جلے لوگ ہیں۔ اللَیِّث: گنجان پودہ۔ نباتٌ لَیِّثٌ: گنجان پودے۔ الألوَث م لَوثاء جمع لُوث: ڈھیلے جسم والا، سست رفتار، موٹی زبان والا، کمزور عقل والا۔ دیمةٌ لَوثاء: مسلسل بارش جس سے پودے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں۔ المَلاث: وہ جگہ جس پر چیز گھومے۔ ......والملوث جمع الملاوث و الملاوِثة و المَلاوِیث: شریف سردار جس کی پناہ لی جائے۔ کہا جاتا ہے: هم مَلاوِثُ: وہ اشراف ہیں۔ انه لنعم المَلاثُ للضیفان: وہ آنے والوں کے لئے حیرت انگیز پناہ گاہ ہے۔ المُلَیَّث: موٹاپے کی وجہ سے سست۔

۲۔ اللائث (ح): شیر۔ اللَوث: طاقت، قوت، شر، زخم (بہت سے)، بدخواہی، کینہ جوئی۔ الألوث م لوثاء جمع لُوث: قوی، طاقت ور۔

لاثَ۔ لَوثًا و لَوَثٌ ه: پر دھبہ ڈالنا، کو داغدار کرنا، پر دھبہ لگانا، کو گندا کرنا، پر داغ لگانا۔ لَوِثَ۔ لَوَثًا: دیر سے کرنے والا ہونا، سست ہونا، تاخیر کرنا، ہچکچانا، سستی کرنا، ٹھہرنا، قیام کرنا، دیر لگانا، دیر کرنا۔ تَلَوَّثَ ب: سے داغدار ہونا یا ہو جانا، سے دھبے پڑنا یا پڑ جانا، سے گندا ہونا یا ہو جانا، کا داغ لگنا، سے لتھڑنا۔ التاث: تاخیر کرنے والا ہونا، سست رفتار ہونا، دیر کرنے والا اور سست ہونا۔ علی: کے لئے تاریک ہونا، مبہم ہونا، غیر واضح ہونا، الجھا ہوا ہونا، پیچیدہ ہونا۔ لَوثة: داغ، دھبہ۔ لُوثة: کمزوری، ناتوانی، ڈھیلا پن، سستی، الکسی، ضعف، تکان، بے کیفی، تھکاوٹ، بے ہوشی، غشی، غش۔ فی: کے لئے جذبہ، کمزوری۔ فیه یا به لوثة: وہ تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے۔ وہ سنکی ہے، خبطی ہے۔ مُلتاث: ذہنی طور پر بوکھلایا ہوا، پریشان، الجھا ہوا۔

لوج: لَاجَ یَلُوجُ لَوجًا الشیءَ: کو منہ میں پھیرنا۔ اللوجِستِیك (ا ع): فوج کا ایک محکمہ جس کے ذمہ کسی جگہ مناسب وقت اچھی طرح مسلح فوجی پہنچانا ہے (یونانی لفظ)، فوجی نقل و حمل اور قیام و رسد (logistics)۔

لوج: (فرانسیسی لفظ) جمع لوجات و الواج: (تھیٹر کا) بکس (box) فری میسن جماعت کی جلسہ گاہ (lodge)، جاگیر پر نوکر کا گھر، دربان خانہ (کسی انجمن کی) جلسہ گاہ۔

لوح: ا۔ لَاحَ یَلُوحُ لَوحًا الشیءُ: ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ النجمُ: ستارے کا نکلنا۔ الیه: کی طرف دزدیدہ نگاہ سے دیکھنا۔ الشیءَ: کو دیکھنا۔ کہا جاتا ہے: لاحه ببصره لوحةً: اس نے اُسے دیکھا پھر وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوگیا۔ العطشُ او السفر فلاناً: پیاس یا سفر کا کسی کے رنگ کو بدل دینا۔ لَوَّحَ تلویحاً: دور سے اشارہ کرنا (خواہ کسی بھی چیز سے کیا جائے)۔ بسیفه: تلوار چمکانا۔ بثوبه: کپڑا بلند کر کے ہلانا۔ کہا جاتا ہے: لَوَّحَ للکلب برغیف فتبعه: اس نے کتے کو روٹی ہلا کر دکھائی تو وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ الشیبُ فلاناً: بڑھاپے کا کسی کو سفید بالوں والا کر دینا۔ السفرُ او العطشُ فلاناً: سفر یا پیاس کا چہرے کو متغیر کر دینا۔ ......فلاناً بالعصا و السیف و السوط و النعل: کو ڈنڈا، تلوار، کوڑا، جوتا اٹھا کر مارنا۔ الشیءَ بالنار: کو آگ سے گرم کرنا۔ العنبُ: انگوروں کا پکنے لگنا (عوام کی زبان میں)۔ اَلَاحَ اِلَاحةً الشیءُ: ظاہر ہونا۔ البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ النجمُ: ستارے کا روشن ہونا۔ بسیفه او ثوبه: تلوار یا کپڑے سے اشارہ کرنا۔ تَلَوَّحَ: ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ اِستَلَاحَ استلاحةً فی الامر: معاملہ کو غور سے دیکھنا۔ اللائحة جمع لَوائِح (اللائح کا مؤنث): خارجی مظہر (کہا جاتا ہے: نظرتُ اِلی لوائحه: میں نے اس کی شکل و صورت کی طرف دیکھا) رجسٹر۔ اللَوح جمع الواح: تختہ، تختی، ہر چوڑی چیز خواہ لکڑی کی ہو یا ہڈی کی یا لوہے کی۔ لَوحُ الجسد: بدن کی ہر چوڑی ہڈی، ہاتھ و ٹانگ کی ہڈی کے سوا ہڈی، ہڈی۔ کہا جاتا ہے: نظرتُ اِلی الواحه: میں نے اس کا ناک نقشہ دیکھا۔ اَلواحُ السلاح: چمکنے والے ہتھیار مثلاً تلوار بھالا وغیرہ۔ اللُوح: کرۂ ہوائی۔ اللَیاح و اللِیاح: صبح، ہر سفید چیز (زور دینے کے لئے کہا جاتا ہے: ابیض لَیاحٌ او لِیاحٌ: خالص سفید۔) (ح): جنگلی بیل۔ التلاوِیح: شروع کے پکے ہوئے انگور (عوام کی زبان میں) التلویحات: کتاب کے حواشی یا نوٹ۔ المُلتاح: دھوپ یا سفر یا کسی اور وجہ سے متغیر رنگ والا۔ المِلواح: لمبا و دراز، پتلا دبلا، اچھی اور

بڑی ہڈیوں والا، جلد دبلی ہونے والی عورت، باز کا شکار کرنے کے لئے ٹانگ سے باندھا جانے والا الو۔ قِدحٌ مُلَوَّحٌ: آگ سے متغیر رنگ پیالہ۔

۲۔لاحَ یَلُوحُ لَوحاً و لُوحاً و لُوَاحاً و لُؤُوحاً و لَوَاحَانًا الرجلُ: پیاسا ہونا۔اِلتاحَ اِلتِیَاحًا: پیاسا ہونا۔اللُّوح: پیاس۔ابلٌ لُوَّحَی: پیاسے اونٹ۔ المِلْوَاحُ و المِلوَحُ و المِلیاحُ جمع مَلَاوِیحُ: جلد پیاسا ہونے والا۔کہا جاتا ہے:اِبلٌ مَلَاوِیحُ: جلد پیاسے ہونے والے اونٹ۔

۳۔الَاحَ اِلَاحَۃً بحقہ: کا حق مارنا۔۔۔ فلاناً: کو ہلاک کردینا۔

۴۔ اَلَاحَ اِلَاحَۃً منہ: سے خوف کرنا، پرہیز کرنا۔۔۔ من القول: کہنے سے شرمانا۔

۵۔الَاحَ اِلَاحَۃً علی الشیءِ: پر اعتماد کرنا۔

(ن) لَاحَ۔لَوحاً: دکھائی دینا، ظاہر ہونا، دھندلا سا اور بڑا دکھائی دینا، منڈلانا، چھانا، برآمد ہونا، نکلنا، نظر آنا (۔۔۔ ل: کو دکھائی دینا) (طلوع سحر) شروع ہونا، چمکنا، دمکنا، یکایک نظر، بھڑک اٹھنا، شعلہ فشاں ہونا، جھلملانا، ٹمٹمانا، لگنا، معلوم ہونا، مرجھانا، (پیاس سے) منہ سوکھنا یا حلق خشک ہونا یا حلق میں کانٹے پڑنا، جھلسنا ۔۔۔ ہ: (سورج کا کسی کو) سانولا کرنا۔یلوح لی أن: مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے:علی مایلوح: جیسا کہ لگتا ہے، معلوم ہوتا، نظر آتا ہے، ظاہراً، نظر بظاہر۔لَوَّحَ الی/ل ب: کو کیساتھ اشارہ کرنا، کو کوئی چیز ہلا کر اشارہ کرنا۔ ۔۔: اشارہ کرنا۔۔ ب: کو اشارۃً کرنا، تلمیح کرنا، کنایہ کرنا، کو اشارۃً کہنا، کو کا اشارہ کرنا، کو اشارۃً کہنا بتانا، مطلع کرنا کہ۔۔ ل ب: پر کی چوٹ کرنا، تعریض کرنا۔۔۔ ب: کو لہرانا، گھمانا، چلانا، حرکت دینا۔۔۔ ہ: بڑھاپے کا سر کو سفید کرنا۔ (سورج کا کسی کو) سانولا کرنا۔۔۔ ہ: (فرش کی) تختہ بندی کرنا، (فرش پر) تختے بچھانا۔لَوَّحَ بیدیہ: ہاتھ ہلا کر اشارہ کرنا۔اَلَاحَ: نمودار ہونا، ظاہر ہونا، دکھائی دینا، نظر آنا، چمکنا، دمکنا، بھڑکنا، شعلہ فشان ہونا، یکایک نظر آنا۔۔۔ ہ: کو ہلانا، لہرانا، گھمانا۔ لَوح جمع اَلْوَاح و الاویح: تختہ، بورڈ، تختہ سیاہ، بلیک بورڈ، سلیٹ، تختی، سل، پلیٹ، شیٹ، (دروازہ وغیرہ کے) ایک خانہ کا شیشہ، لمبا اور کم چوڑا تختہ، منقش تختہ، چھوٹا بورڈ، سائن بورڈ، شانہ۔ ۔۔وح ۔۔ : سلیٹ کی سل، سلیٹ۔لَوحٌ ۔۔۔۔: شکن دار، سلوٹوں والی لوہے کی چادر corrugeted iron۔لوحُ الجلید: برف کا بلاک۔لوح ۔۔۔: لوہے کی چادر۔لوحُ زُجاجٍ: شیشے کی چادر، pane۔لوحٌ مُتَحَرِّكٌ: (کھیلوں میں) سپرنگ بورڈ۔لوحٌ مَعْدنی: دھاتی پلیٹ، دھاتی چادر۔لوحُ النافذہ: کھڑکی، دریچہ کا شیشہ window pane۔لَوْحَۃ جمع لَوحات و اَلْوَاح: بورڈ، تختہ، بلیک بورڈ، تختہ سیاہ، سلیٹ، تختی، سل، پلیٹ، چادر، (کھڑکی وغیرہ کا) شیشہ، ولا، منقش تختہ، سجاوٹی تختی، زیبائشی تختی، آرائشی لوح، ہموار سطح، سطح، سکرین، اٹھائے ہوئے اشتہار، placard، پوسٹر، تصویر، رنگین تصویر، نقش رنگین (painting)۔لوحۃ الاسم: دروازہ پر لگی ہوئی تختی، نام کی تختی (door plate, name plate)۔لوحۃُ التوزیع: سوچ بورڈ switch board، بٹن تختہ۔لوحۃ الداما: مہرہ بازی کا بورڈ، شطرنج کی بساط۔لوحۃٌ زیتیۃ: روغنی تصویر oil painting۔لوحۃٌ سَوْداء: بلیک بورڈ، اعلامیہ بورڈ bulletin board۔لوحۃُ الشطرنج: شطرنج کی بساط۔لوحۃ الکتابۃ: سلیٹ، لکھنے کی تختی، بلیک بورڈ۔لَوَّاح: مرجھایا ہوا، پژمردہ، جانکاہ جھلسا ہوا، سوزاں، جلانے والا۔تَلْوِیح جمع تلویحات: اشارہ کرنا، لہرانا، گھمانا، اشارہ، آنکھ کا اشارہ، ایماء، رمز کنایہ، تلمیح، حوالہ، آگہی، اطلاع، در پردہ الزام لگانا، مجاز مرسل (موصوف کی جگہ صفت)۔جمع اشارے، حوالے، ریمارکس، حاشیے، شرحیں، حاشیہ پر لکھے ہوئے نوٹ۔لائحۃ جمع لائحات و لَوَائِح: پروگرام، لائحہ عمل، نظام العمل، منصوبہ، خاکہ، مسودہ قانون (bill)، تحریک یا قرارداد (motion) حکم، فرمان، فرمان (ordinance) قاعدہ (regulation)، ضابطہ (rule) جمع لوائح: خارجی مظہر، شکل، صورت، خارجی اشارہ۔لائحۃٌ قانونیۃ یا لائحۃُ القانون: مسودہ قانون (bill, draft law)۔لائحۃُ السفر: ٹائم ٹیبل، اوقات نامہ، ٹرین شیڈول، ریلوے گائیڈ۔لائحۃُ الطعام: طعام نامہ (menu)۔مُلَوِّحَۃ: اشارہ (ریلوے سگنل)، جھنڈی کے ذریعے اشارہ (semaphore)، مُلْتَاح: دھوپ سے سانولا جھلسا ہوا۔

لوخ: لاخَ یَلُوخُ لَوخاً: کو ملانا، خلط ملط کرنا۔اِلْتَاخَ اِلْتِیَاخًا الشیءُ: ملنا، خلط ملط ہونا۔۔۔ العجینُ: آٹے میں خمیر المنا۔اللِوَاخۃ و اللیاخۃ: دودھ سے ملا ہوا مکھن۔

لود: لَوِدَ یَلْوَدُ لَوَدًا: سرکش و باغی ہونا۔الألْوَد جمع اَلْوَاد: سرکش جس کا انصاف کی طرف جھکاؤ نہ ہو، موٹی گردن۔

لوذ: ۱۔لَاذَ یَلُوذُ لَوْذًا و لَوَاذًا و لِوَاذًا و لُوَاذًا و لِیَاذًا بالجبل: پہاڑ میں جا چھپنا، قلعہ بند ہونا، پناہ لینا۔۔۔ بالقوم: قوم کی پناہ میں آنا۔۔۔ الطریقُ بالدار: راستے کا گھر تک پہنچنا۔لَاوَذَ لِوَاذًا و مُلَاوَذَۃً بفلان: کی پناہ میں آنا۔۔۔ القومُ: ایک دوسرے کی پناہ لینا۔۔۔ القومَ: قوم کی مدارات کرنا۔۔۔ بالقوم: کو گھیرنا۔اَلَاذَ اِلَاذَۃً بالجبل و بالقوم: بمعنی لَاذَ۔الطریقُ بالدار: راستے کا گھر کے ارد گرد اور اس سے ملا ہوا ہونا۔۔۔ ت الدارُ بالطریق: گھر کا راستے سے متصل ہونا۔اللَوذ (مص) جمع اَلْوَاذ: پہاڑ کا دورہ، گشت، پہاڑ کا پہلو (کہا جاتا ہے: اعتصم بلوذ الجبل و بالواذہ: اس نے پہاڑ کے پہلو میں پناہ لی) وادی کا موڑ (کہا جاتا ہے:نزلوا بلوذ الوادی: وہ وادی کے موڑ پر اترے) گوشہ/علاقہ۔کہا جاتا ہے:فلان یطوف فی الواذ البلاد: فلاں شخص ملک کے گوشوں/علاقوں میں سفر کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے:ھو لَوْذُہٗ: وہ اس کے قریب ہے۔لواذُ الشیءِ: چیز کے قریب قریب۔کہا جاتا ہے:لی من الدراھم مائۃٌ او لواذُھا: میرے پاس سو کے قریب درہم ہیں۔لَوْذَانُ الشیءِ: کنارہ، جانب۔ التَّلْوَاذ: اسم ہے بمعنی المُلَاوَذَۃ: کہا جاتا ہے:لھم تَلْوَاذٌ: وہ ایک دوسرے کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ المَلَاذ: قلعہ، جائے پناہ۔الملاوِذ: مِلْوَذ کا مفرد، از اریں۔الملوذۃ: قلعہ، جائے پناہ۔

۲۔لَاوَذَ لِوَاذًا و مُلَاوَذَۃً فلانًا: کی مخالفت کرنا۔۔۔ عنہ: سے بچ کر نکل جانا، فریب سے نکل جانا۔اللَوْذَعِیَۃ: دھوکا دہی، ریاکاری، فریب، مکر، جھوٹ۔

۳۔اللاذۃ جمع لَاذ: سرخ ریشم کا کپڑا۔

(ن) لَاذَ۔لَوذًا و لِواذًا و لَوَاذًا و لُوَاذًا و لِیَاذًا ب: کے پاس یا میں پناہ لینا، سے رجوع کرنا، کے پاس جایا کرنا، کے قریب رہنا، پر مذہبی طور پر عمل پیرا ہونا۔ مَلَاذ: پناہ، حمایت، پناہ گاہ، مامن، ملجا، محافظ، نگہبان۔ لائذ: پناہ یا حفاظت کا متلاشی، پناہ گیر، پناہ گزین۔

(ن) لُور: قدیم یونانی بربط۔لائر۔لُوْرد جمع لوردات: لارڈ (lord) (انگریزی)۔لوری: لاری، ٹرک۔

لور: اللُّوَر (ط): کھٹی پنیر جسے قریشہ بھی کہا جاتا ہے۔

لوز: ۱۔لَازَ یَلُوزُ لَوْزًا الیہ: کے پاس پناہ لینا۔المَلَاز: پناہ گاہ۔کہا جاتا ہے:انہ لعوزٌ لوزٌ: وہ غریب مفلس ہے۔

۲۔لَازَ یَلُوزُ لَوْزًا منہ: سے خلاصی پانا، چھٹکارا حاصل کر لینا۔

۳۔لَازَ یَلُوزُ لَوزًا الشیءَ: کو کھانا۔لَوَّزَ تَلْوِیزًا التمرَ: کھجور میں بادام بھرنا۔اللَّوْز (ن): بادام کا درخت۔اللَوْزَة: گلے کی گلٹی/غدود جو دو گلٹیاں ہوتی ہیں:اللَوْزَتَان: کمان کے دو سوراخ جہاں تانت باندھی جاتی ہے۔لَلَوْزِی: بادامی شکل کا۔اللَوْزِینَج (ط): بادام والا کیک۔اَرْضٌ مَلازَةٌ: زمین جہاں بادام کے درخت بکثرت ہوں۔المُلَوَّز: بادام بھری کھجور۔وجهٌ مُلَوَّزٌ: خوبصورت،ملیح چہرہ۔

○ لَوَّزَ ہ: میں بادام بھرنا۔لوز (اسم جمع) بادام،جوتے پر لگا پیوند۔لَوْزَة جمع لوزات: بادام۔التھاب اللوزتین: گلے کے غدودوں کا ورم(tonsitilis)

لوس: لَاسَ یَلُوسُ لَوسًا الشیءَ: کو چکھنا ـــ الحلاواتِ وغیرَھا: مٹھائی کا بہت شوقین ہونا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا صفت لائِس و لَؤُوس ولَوَّاس و اَلْوَس۔ ـــ الشیءَ فی فمه: کو منہ میں چکر دینا۔کہا جاتا ہے هو لا یَلوسُ کذا: وہ اسے اس طرح حاصل نہیں کرتا۔اللُّوُس: لائِس کی جمع: کھانا، طعام۔کہا جاتا ہے ماذقتُ لَوَاسًا: میں نے ایک لقمہ یا نوالہ بھی نہیں چکھا۔اللُّوَاسَة: لقمہ،نوالا۔کہا جاتا ہے ماذقتُ لَؤُوسا: میں نے ایک لقمہ بھی نہیں چکھا۔

لوص: ا۔لَاصَ یَلُوصُ لَوصًا: دروازہ وغیرہ کی دراڑ سے دیکھنا ـــ عنه: سے کنارہ کرنا،اجتناب کرنا، کترانا۔لَاوَصَ مُلاوَصَةً: دروازہ وغیرہ کی دراڑ سے دیکھنا ـــ الیه: اس طرح دیکھنا گویا کسی ارادہ سے فریب دے رہا ہے ـــ فلانا عن کذا: کو میں دھوکا دینے یا فریب سے خطرہ میں ڈالنے کی کوشش کرنا۔...... ـ الشجرةَ: درخت کو کاٹنے کے لئے ادھر اُدھر سے دیکھنا۔اَلَاصَ اِلاصةً ہُ علی الشیء: کو کے قابل بنانا۔کہا جاتا ہے ما اَلَصْتُ أن آخذ منه شیئًا: میں نے اس سے کوئی چیز لینے کا ارادہ نہیں کیا۔تَلَوَّصَ تَلَوُّصًا: پہلو بدلنا،پیچ و تاب کھانا، کروٹ بدلنا،لوٹ پوٹ ہونا۔المُلاوِص: چاپلوس، فریبی۔

۲۔لَوَّصَ تلویصًا: خالص شہد کھانا۔اللَوَاص: خالص شہد۔

۳۔اُلِیصَ الرجُلُ: خوف زدہ ہونا۔

۴۔اللُّوُص: کان یا گلے کا درد۔

○ لَاصَ ـلَوصًا: دروازہ کی درز سے جھانکنا،بغور دیکھنا،راز جوئی کرنا۔لَاوَصَ ہ: کے لئے راز جوئی کرنا۔ہ/اِلی: کو تکنا،گھورنا،ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا،کو پکی طرح دیکھنا ـــ ہ: کو دھوکا دینا،فریب دینا،جل دینا، ٹھگ لینا۔مُلاوِص: عیار،مکار،کائیاں،فریبی،چالباز۔

لوط: ا۔لَاطَ یَلُوطُ لَوطًا الحوضَ: حوض کو مٹی سے لیپنا ـــ الشیء بالشیء: کو سے جوڑنا۔کہا جاتا ہے:لَاطَ الشیءُ بقلبی: چیز میرے دل کو لگی اور میں نے اس کو پسند کرلیا ـــ فلانًا بفلان: کو سے لاحق کرنا،کی سے نسبت کرنا ـــ فلانًا بعین اوسهم: کو نظر لگانا،تیر لگانا ـــ الشیءَ: کو چھپانا ـــ فی الامر: پر اصرار کرنا۔لَوَّطَ تلویطًا ہ بالطیب: کو خوشبو سے لت پت کرنا۔اِلْتَاطَ اِلْتِیاطًا ہُ: غیر کو اپنا بچہ بنانا ـــ حوضًا: کو اپنے لئے مٹی سے لیپنا۔کہا جاتا ہے:اِلْتَاطَ بقلبی: وہ میرے دل میں جم گیا،مجھے اس سے محبت ہو گئی۔اِسْتَلَاطَ اِسْتِلَاطَةً ہُ: کو اپنا بیٹا بنانا۔اللَّاطَة: شہتیر جو چھت بنانے کے کام آتا ہے۔عوام اسے "لَطّ" کہتے ہیں۔اللَوْط (مص): چادر، چپکنے والی چیز۔کہا جاتا ہے انی لاجد له فی قلبی لَوطًا: میں اس کی محبت کو اپنے دل میں پیوستہ پاتا ہوں۔الاَلْوَط: اسم تفضیل۔کہا جاتا ہے هو اَلْوَطُ بقلبی: وہ میرے دل سے زیادہ چمٹنے والا ہے۔

المُسْتَلاط: منہ بولا بیٹا۔

۲۔لَاطَ یَلُوطُ لَوطًا الانسانَ: کو مارنا،دھتکارنا۔

۳۔اللَوْط: سُود،چست و پھرتیلا۔اللِیَاط: سُود۔

○ لَاطَ ـلَوطًا ب: سے چپکنا،چمٹنا ـــ ہ: (دیوار وغیرہ) کو مٹی سے لیپنا،پر پلاستر کرنا۔لوط: (بائبل کا ایک نام)۔لُوطِی: لونڈے باز،اغلام باز۔لِوَاط و لِوَاطة: لونڈے بازی،اغلام بازی۔

لوظ: لَاظَ یَلُوظُ لَوظًا ہُ: بمعنی لَأَظَهُ۔اِلْتَاظَت الحاجةُ: حاجت کا مشکل ہونا۔

لوع: الَاعَ یَلُوعُ لَوعًا ہُ الحبُّ: کو محبت کا بیمار کر دینا ـــ ت الشمسُ فلانا: سورج کا کسی کو جھلس دینا،رنگ متغیر کر دینا ـــ لَوعًا و لُوُوعًا الرجُلُ: بزدل ہونا،گھبرانا یا حریص و بد خلق ہونا ـــ یَلاعُ و یَلُوعُ لَوعَةً: غم یا عشق سے دل جلنا،گھبرانا،تنگ دل ہونا،مریض ہونا۔لَوَّعَ تلویعًا ہُ الحبُّ: کو محبت کا بیمار کر دینا۔عوام کہتے ہیں لَوَّعَ فُلانًا: اس نے فلاں شخص کو ایذائیں دیں۔اَلَاعَ اِلاعَةً تُہُ الشمسُ: سورج یا دھوپ کا کسی کا رنگ متغیر کر دینا ـــ الثدیُ: پستان کے سرے کا سیاہ و متغیر ہونا۔اِلْتَاعَ اِلْتِیاعًا قلبُهُ: غم یا عشق سے دل کا جلنا۔اللَّاعُ جمع لَاعُون و لَاعَة و اَلْوَاع: بیمار،گھبرانے والا،بزدل۔کہا جاتا ہے رَجُلٌ هاعٌ لَاعٌ: بزدل اور گھبرانے والا مرد، مؤنث صورت میں کہا جاتا ہے:هی هاعَةٌ لاعَةٌ: وہ بزدل اور گھبرانے والی عورت ہے۔نیز کہا جاتا ہے: رجُلٌ هائعٌ لائعٌ: بزدل اور گھبرا جانے والا مرد۔اللاعَة جمع لاعَات: لاع کا مؤنث۔اللَوْعَة: لاع کا اسم مرۃ،غم یا عشق وغیرہ کی جلن،پستان کے سرے کی سیاہی۔کہا جاتا ہے:فی قلبه لوعةٌ: اس کے دل میں غم یا عشق کی جلن ہے۔

۲۔اللاعَة جمع لاعَات: تیز فہم ہوشیار اور بانکی عورت۔

○ لَاعَ یَلُوعُ لَوعًا: اڑیل یا بے صبر،بے چین،بے تاب یا بے قرار یا مضطرب ہونا یا ہو جانا،بیمار ہو جانا ـــ ہ: کو پر زور طریقے سے پکڑنا،بے بس کر دینا، جذبات سے بے قابو کر دینا،تکلیف پہنچانا،بیمار کر دینا (محبت کا)،(دھوپ کا) کسی کو سانولا کر دینا۔لَوَّعَ: سخت اذیت پہنچانا،تکلیف پہنچانا،ذہنی کوفت پہنچانا۔اِلْتَاعَ: (محبت اور خواہش سے) جلنا،نڈھال ہونا ـــ علی: کسی کے لئے بہت پریشانی محسوس کرنا۔لَوْعَة: محبت کی لگن،دھن،گرمجوشی،عشقیہ وجد یا بے حد خوشی، مرضِ عشق،تکلیف،سخت غم،کوفت،سخت اذیت (بالخصوص ذہنی)،پریشانی،درد و کرب،شدید (جسمانی یا روحانی) اذیت،سوہان روح۔التیاع: جلنا،وجد طاری ہونا،پریشانی،کوفت،سخت اذیت (بالخصوص ذہنی) تکلیف،مصیبت۔مُلاوِع: فریبی چالباز، عیار،چالاک،حرّاف،مکار،کائیاں۔لوغاریتمان: ضرب تقسیم کے سوال جمع تفریق کے طور پر حل کرنے کے طریق کا سلسلہ،آسان شمار کا سلسلہ(logarithms)

لوف: الَافَ یَلُوف لَوفًا الطعامَ: کھانا کھانا یا چبانا ـــ ت الدابةُ الکلأَ: مویشی کا خشک گھاس کھانا۔اللُّوف (ن): ایک قسم کا پودا۔اللَوْف (مص) من الکلاء و الطعام: ناپسندیدہ کھانا یا چارہ۔اللَّیِّف: خشک گھاس (اصل میں لَیْوِف ہے) کہا جاتا ہے: کلأٌ مَلُوف: گھاس جسے بارش نے دھو دیا ہو۔

۲۔اللُّوف: واحد لُوفَة (ن): ایک قسم کا پودا۔اللُّوفِی (ن): ایک پودا جو پرانی پیچش میں آزمودہ ہے۔اللُّوَفَة: پلپلاپن،خشک۔اللَوَّاف: دریاں بنانے والا۔

لوق: الَاقَ یَلُوقُ لَوقًا ہُ: کو نرم کرنا ـــ الدواةَ: دوات کی روشنائی کو ٹھیک کرنا۔کہا جاتا ہے هو لا یَلُوقُ عندكَ: وہ تیرے پاس نہیں ٹھہرے گا۔لَوَّقَ تلویقًا الطعامَ: کھانے میں مکھن ڈالنا۔اللُّوق: کھانے وغیرہ کی ہر نرم چیز۔کہا جاتا ہے ماذاقَ لَوَاقًا: اس نے کچھ نہیں چکھا۔اللُّوقَة: لاقَ کا اسم مرۃ۔اللُّوقَة

و الأُلوقة: مکھن۔المِلوَق: دوافروش کا چمچہ۔

۲۔لاقَ يَلُوقُ لوقًا عينهٗ: کی آنکھ پر مارنا۔

۳۔لَوّقَ هٗ فتلوّق: اس نے اسے ٹیڑھا کیا تو وہ ٹیڑھا ہو گیا (عوام کی زبان میں)۔اللّوَق: حماقت۔الألوَق: احمق۔۔۔۔۔عند العامة: ٹیڑھا۔

۴۔اللّوقة: گھڑی۔کہا جاتا ہے ذهبَ فلانٌ لَوْقةً: وہ گھڑی بھر گیا۔

مِلوَق جمع مَلاوِق: ملانے کی چھری، چوڑے پھل کا چاقو یا چمچہ، مرہم پھیلانے کا چاقو، زبان دبا کر حلق دیکھنے کا دستہ (spatula)۔

لوك: لاكَ يَلُوكُ لَوكًا اللقمة: نوالہ کو ہلکے سے چبانا اور منہ میں پھیرنا۔الفرسُ اللجامَ: گھوڑے کا لگام چبانا اور کاٹنا۔کہا جاتا ہے هو يَلُوكُ اعراضَ الناس: وہ لوگوں کی عزتوں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔کہا جاتا ہے أَلِكْنِي إلى فلان: اس کو میرے بارے میں بتاؤ اور میرا پیغام اس کے پاس لیجاؤ۔(اصل میں أَلْئِكْنِي ہے۔دیکھو لاك)۔اللَّوَاك: چبایا جانے والا نوالہ، لقمہ۔کہا جاتا ہے ماذاقَ لَوَاكًا: اس نے لقمہ بھی نہیں چکھا۔

لاكَ عَلَوكًا ہ: کو چبانا، کے متعلق متواتر باتیں کرنا۔۔۔سُمْعَتَهٗ: کی شہرت خراب کرنا، کو بدنام کرنا۔لاكَ الكلامَ: بات کرتے ہوئے رکنا، ہکلانا، اظہار مافی الضمیر مکمل طور پر نہ کرنا۔السؤالُ الذی تلوكُهٗ الالسنة: وہ سوال جو ہر شخص کے لب پر ہے۔ماتلوكُهٗ الالسنُ: وہ بات جو لوگ کرتے ہیں، عام افواہ ہے۔لوكاندہ اولوكَنْدَہ جمع لوكندات: سرائے، ہوٹل۔

لول: المَلْوَلاء: سختی، تکلیف۔کہا جاتا ہے وقع فی اللولاء: وہ سختی اور تکلیف میں پڑ گیا۔

۲۔لولا: یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلا جملہ اسمیہ اور دوسرا فعلیہ ہوتا ہے اور اول کے وجود سے دوسرے کے انتفاء پر دلالت کرتا ہے: اگر نہ۔جیسے لولا زیدٌ لأكرمتك: اگر زید موجود نہ ہوتا تو میں تیری عزت کرتا۔اس کے بعد شروع میں آنے کی وجہ سے اسم مرفوع ہوتا ہے۔اگر اس کے بعد ضمیر ہو تو وہ مرفوع ہونی چاہئے۔جیسے لولا انتم لکنا مؤمنین: (اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے) لولای، لولاك اور لولاہ: بہت کم مسموع ہے۔تحضیض اور عرض کیلئے آئے تو مضارع سے مخصوص ہوتا ہے یا جو لفظ اس کی تاویل میں آئے اس سے۔جیسے لولا تستغفرون اللہ (تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے) (بمعنی تحضیض) اور لولا اخرتنی إلی اجل قریب: (تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی) یہ بمعنی عرض ہے۔توبیخ و تندیم کے لئے آئے تو ماضی سے مخصوص ہوتا ہے۔جیسے لولا جاؤوا علیه باربعة شهداء: (وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے)۔لولا کی اصل لو اور لا کا مرکب ہے۔اس کا جواب ضروری ہے۔اس کے جواب میں اکثر لام آتا ہے۔مگر لَمْ سے منفی ہو تو لام نہیں آئے گا۔

۳۔اللولب: دیکھئے لوب

۴۔لَوْلَی لَوْلاةً: واپس مڑنا۔کہا جاتا ہے لَوْلَی مُدْبِرًا: وہ واپس مڑ گیا۔

لوم: لامَ يَلُومُ لَوْمًا و مَلامًا و مَلامَةً فی كذا و علی كذا: کو کسی بات میں یا کسی بات پر ملامت کرنا، پر نکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا۔فاعلی صفت لائم مفعولی صفت مَلِيم و مَلُوم۔لَوَّمَ تَلْوِيمًا ہٗ: کو ملامت کرنا، تشدید مبالغہ کیلئے ہے۔لاوَمَ مُلاوَمَةً و لِوامًا ہٗ: ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ألامَ إلامةً ہٗ: کو ملامت کرنا۔صفت فاعلی مُلِيم صفت مفعولی: مُلام اور اسم المَلامَة جمع مَلاوِم: ملامت۔۔۔الرجلُ: قابل ملامت کام کرنا۔تَلَوَّمَ تَلَوُّمًا: اپنے آپ کو ملامت کرنا۔تلاوَموا: ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔التَأَمَ التِئامًا: ملامت قبول کرنا۔

اِستَلامَ استلامةً: ملامت کا مستحق ہونا۔۔۔۔الیهم: ایسا کام کرنا جس پر لوگ اسے ملامت کریں۔اللائم ج لُوَّم و لُوَّام و لُيَّم فا: ملامت کرنے والا۔اللائمة جمع لَوائم: لائم کا مؤنث: ملامت کرنے والی، ملامت۔کہا جاتا ہے استحق اللائمة: وہ ملامت کا مستحق ہوا۔جاءَ بلامَةٍ: اس نے قابل ملامت کام کیا۔اللَّوْم (مص): ملامت۔اللُّوَم: بہت ملامت۔اللَّوْمَی و اللَّوْماء: ملامت۔

اللَّوْمَة: لام کا اسم مرۃ۔کہا جاتا ہے جاء بلومةٍ: اس نے قابل ملامت کام کیا۔المَلُومة: ملامت کیا ہوا۔جسے لوگ ملامت کریں، امکان، توقع، تاخیر۔کہا جاتا ہے لی فیه لومة: مجھے سے توقع ہے۔اللُّوَمَة: بہت ملامت کرنے والا۔اللَّوّام: بہت ملامت کرنے والا۔اللَّوّامة: بہت ملامت کرنے والا۔النفس اللوّامة: غلط کاری پر ملامت کرنے والا نفس۔کہا جاتا ہے انت الوم من فلان: تو فلاں سے زیادہ اس بات کا حق دار ہے کہ تجھے ملامت کی جائے۔المُتَلَوِّم (فا): برے کام کی وجہ سے قابل ملامت۔

۲۔لِيْمَ بہ: کاٹا جانا۔اِستلامَ اِستِلامةً إلی ضيفه: مہمان سے اچھا سلوک نہ کرنا۔

۳۔لَوَّمَ تَلْوِيمًا لامًا: حرف 'لام' لکھنا۔اللام جمع لامات: حرف تہجی جس کا ذکر شروع میں کیا جا چکا ہے۔اللامِيّ: لام سے منسوب۔لاميةُ العجم: طغرائی کا قصیدہ لامیہ۔لاميةُ العرب: شنفری کا قصیدہ لامیہ۔

۴۔تَلَوَّمَ تَلَوُّمًا: بیماری کی جگہ (معلوم کرنے کے لئے اس) کا کھوج لگانا۔۔۔۔فی الامر: میں دیر کرنا۔المُتَلَوَّم: حاجت پوری کرنے کا منتظر۔

۵۔اللامُ جمع لامات: خوف، وجود، نزدیکی، سخت چیز۔اللامة: خوف۔اللامیون (ن): ایک قسم کا پودا جس کے پتے موٹے اور پھول سفید اور گلابی رنگ کے ہوتے ہیں۔متروکہ مقامات پر بکثرت پایا جاتا ہے۔پھولوں کے لئے کاشت کیا جاتا ہے۔اس کی اہم قسم اللامیون الابیض ہے۔اللامی (ز): درخت کی سفید رنگ کی گوند جو چبائی جاتی ہے۔اللُّوم: خوف۔اللُّوَم: ہمزہ والے اللؤم کا مخفف۔

لُومَان: اصلاحی قید خانہ، قید بامشقت (penal servitude) لُومَانجی: مجرم، اصلاحی قید خانہ میں داخل یا مقیم (immate of a penitentiary)

لون: لَوَّنَ تَلْوِينًا الشیءَ: کو رنگین کرنا۔البُسْرُ: کھجور میں پکنے کا اثر ظاہر ہونا۔کہا جاتا ہے: لَوَّنَ الشيبُ فيه: بڑھاپے کا بالوں میں ظاہر ہونا۔تَلَوَّنَ الشیءُ: رنگدار ہونا، مختلف رنگ کا ہونا۔الرجلُ: متلون مزاج ہونا۔اِلْوَنَّ الونانا: بمعنی تلوّن۔اللَّون جمع ألوان: وہ چیز جو ایک چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کر دے، رنگ، قسم۔کہا جاتا ہے عنده لونٌ من الثياب: اس کے پاس کپڑے کی ایک قسم ہے۔اكلنا كذا و كذا لونا من الطعام: اس نے ایسی ایسی قسم کا کھانا کھایا۔اَتَی بالوان من الحدیث: اس نے کئی قسم کی باتیں کیں۔المُتَلَوِّن: طرح طرح کے کھانے پیش کرنا، اسلوب کلام کا بدلنا۔المُتَلَوِّن (فا): متلون مزاج والا۔

لَوَّنَ ہ: کو بوقلمون بنانا، میں مختلف رنگوں کے ٹکڑے لگانا، پچیکاری کرنا، کو رنگدار بنانا، رنگین بنانا، کو رنگنا، پر رنگ کرنا، کو ہلکا سا رنگ دینا، میں ہلکی سی جھلک پیدا کرنا، پر روغن کرنا، پر استرکاری کرنا (چہرے وغیرہ کا) بناؤ سنگار کرنا، (پر) سرخی لگانا۔تَلَوَّنَ: رنگدار یا رنگین ہونا، ہلکا سا رنگ دار ہونا، رنگ فق ہونا، ایک رنگ آنا

ایک رنگ جانا، رنگ بدل جانا یا خراب ہو جانا، بوقلموں ہونا، متلون ہونا، ناپائدار ہونا۔.....لَـون: رنگ رنگ آمیزی، کسی (رنگ کا) ہلکا سا روپ، ہلکا سا رنگ، جھلک، شائبہ، رنگ کی کمی بیشی (shade)، قسم، صنف، جنس، نمونہ، مثال، وضع ڈھنگ، صورت، خاص قسم کا کھانا (dish) روش۔ جمع الوان: کی تمام اقسام (جب مضاف ہو) جیسے: الوانُ الاطعمة: ہرطرح کے کھانے۔ مختلفُ الالوان: بوقلموں، متعدد رنگوں کا، گوناگوں، مختلف رنگوں کا، طرح طرح کا، کئی۔ جَلَّى اَلْوانَهُ: کے مختلف پہلو واضح کرنا، کو نمایاں کرنا۔ لَونی: رنگدار، رنگین، رنگ کا، رنگ سے متعلق، رنگوں سے متعلق۔ تـلـويـن: رنگ دینا، رنگ کرنا دیکھئے لَوَّنَ۔ مُـلَـوَّن: رنگدار، رنگین، کئی رنگ کا، بوقلموں، منظر بدل آلے سے متعلق (kaleidoscopic)۔ مُتلَوِّن: رنگ دار، رنگین، کئی رنگا، متعدد رنگوں کا، ہلکے رنگ والا، بوقلموں رنگینی والا، ضوبار، جھل مل کرنے والا، غیر مستقل، متلون مزاج، گھڑی میں کچھ گھڑی میں کچھ، غیر وضع دار، بے اصول، متزلزل، موجی، ترنگی، وہمی، خبطی، لہری۔

لوه: لاهَ يَلوهُ لَوهًا و لَوَهانًا و تَلَوَّهَ السرابُ: سراب کا چمکنا، جھلک دکھانا۔ لوهُ السراب و لَوهتُه لُؤُوهتُه: سراب کی چمک۔ اللاهَة (ح): سانپ۔

○ لَونجی و لاوُنجی: خدمت گزار، غسل کے لئے خدمت گزار۔ لَونجِيَة: گھر کی منتظمہ، خدمت گزار عورت، نوکرانی۔ لَوَنْدا: لیونڈر lavender ماءُ اللَّوَنْدا: عطر لیونڈر، (لیونڈر ایک قسم کی خوشبو)۔

لوى: لَوَى يَلْوِى لَيًّا و لِيًّا و لَيَّانًا و لِيَّانًا هُ دَيْنَهُ و بِدَيْنِهِ: (ع اور لام کلمہ و کے ساتھ): سے قرض میں ٹال مٹول کرنا۔ — فلانًا بحقه: کے حق سے انکار کرنا۔ لَوِىَ يَلْوَى لَوًى النبتُ: نباتات کا خشک ہونا۔ — القِدْحُ او الرملُ: تیر یا ریت کا ٹیڑھا ہونا۔ — ت المعدةُ او الظهرُ: معدہ کا درد والا ہونا، کمر کا جھکنا، صفت مذکر: لَوٍ صفت مؤنث: لَوِيَة۔ — ت الـحيَّةُ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔ لاوَى مُلاواةً و لِواءً ت الـحيَّةُ الـحيَّةَ: سانپ کا سانپ پر لپٹنا۔ اَلْوَى اِلْواءً بحق فلان: کے حق کا انکار کرنا۔ — بکلامه: کلام میں تبدیلی کرنا۔ — بیده او بثوبه: ہاتھ یا کپڑے سے اشارہ کرنا۔ ـ به: کو لیجانا۔ — بما فی الاناء: برتن کی چیز کو اپنے لئے خاص کرنا۔ — بهم الدهرُ: زمانہ کا لوگوں کو ہلاک کرنا۔ — البقلُ: سبزی کا مرجھانا۔ النبتُ: نباتات کا خشک ہونا۔ — القوم: لوگوں کا قطعہ ریت کے موڑ پر پہنچنا۔ — الرجلُ: خشک کھیتی والا ہونا، دوسرے کے لئے چھپا کر رکھا ہوا کھانا کھالینا، امیر لشکر کا جھنڈا سینا۔ — الامیرُ لَهُ لواءً: امیر لشکر کا کسی کے لئے جھنڈا نصب کرنا۔ — فلانٌ اللواءَ: جھنڈا اونچا کرنا اور نصب کرنا۔ تَلوّی تَلَوِّيًا الشیءُ: مڑنا۔ — البرقُ فی السحاب: بجلی کا بادل میں چمکنا۔ — تلاوَيا: ایک دوسرے پر لپٹنا (جیسے سانپ وغیرہ کا دوسرے پر لپٹنا)۔ تَلاوَوْا تَلاوِيًا علی فلان: کے پاس جمع ہونا۔ اِلْتَوَى اِلْتِواءً القِدحُ او الرملُ: تیر یا ریت کا ٹیڑھا ہونا۔ — الشیءُ: مڑنا۔ لَوِيَّةً: دوسرے کے لئے کھانا چھپا کر رکھنا۔ — علیه الامرُ: پر دشوار ہونا۔ اِسْتَلوى بهم الدهرُ: زمانہ کا لوگوں کو ہلاک و ویران کرنا۔ اللاوی جمع لاوُون و لُواة فا۔ اللاوِياء (ن): ایک پودا۔ اللِواء جمع اَلْوِيَة و اَلْوِيات: جھنڈا (رایۃ سے چھوٹا) (اع): میجر جنرل۔ — (فی التقسیم الاداری): ضلع، صوبہ، بریگیڈیر جنرل۔ کہا جاتا ہے: بعثوا بالسواء و اللِواء: انہوں نے مدد طلب کی۔ اللُّواء (ح): ایک قسم کا پرندہ۔ اللَّوَة: بدشکلی۔ اللَّوَى: باطل باتیں۔ اللَّوَى (مص): کمر کی خمیدگی، معدے کا درد۔ اللِوی جمع اَلْواء و اَلْوِيَة: ریت کا موڑ یا ریت کا تنگ حصہ۔ اللَّوِیّ: خشک یا مرجھائی ہوئی سبزی یا گھاس، خشک یا تر کے درمیان حالت کی گھاس۔ اللَّوِیّ (ن): ایک درخت کہا جاتا ہے کہ رسیوں کی طرح اگتا ہے اور درختوں سے لپٹ جاتا ہے۔ اللَّوِيَّة جمع لَوايا: دوسرے کے لئے چھپایا ہوا کھانا۔ اللِيَّة: قرابتیں۔ الألْوَى: ٹیڑھا سینگ پیدائشی مڑی ہوئی دم جمع لُیّ۔ — من الطریق: غیر معروف دور کا راستہ۔ کہا جاتا ہے: رماهُ اللّٰهُ بـاَحْوَى اَلْوَى: اللہ تعالیٰ اُسے بڑے سے بڑے مصائب میں مبتلا کرے۔ — م لَيّاء: سخت جھگڑالو، جنگجو، تکلیف دہ، اکیلا، عزلت نشیں۔ اللَيّاء: الألْوَى کا مونث: زمین جو پانی سے دور ہو۔ الألْواء: وادی کے پہلو، ملک کے علاقے، اطراف۔

۲۔ اَلْوَى اِلْواءً فلانٌ: بہت تمنا کرنا۔

۳۔ اللاوون و اللاؤو: الذين کی جمع۔ اللات: ایک بت کا نام۔ اللاوِياء: داغنے کا لوہا۔ اللاوِیّ جمع لاوِيُّون: لاوی بن یعقوب بن اسحٰق بن ابراہیم علیہم السلام کی طرف منسوب۔ سِفرُ اللاوِيّين: موسیٰ علیہ السلام کی پانچ کتابوں میں سے ایک کتاب۔ اللَّوَّة و اللِّيَّة: دھونی دینے کی عود۔ اللَّوَى: بمعنی اللاتی جو التی کی جمع ہے۔ اللَّوِيّ: لَو سے منسوب۔

○ لوَى ـ لَيًّا لُوِيًّا ه: کو موڑنا، جھکانا، خم کرنا، بل دینا، مروڑنا، توڑنا، مروڑنا، لپیٹنا، کا حلیہ بگاڑنا، کو مسخ کرنا، کی غلط تاویل کرنا، (سر) موڑنا، (منہ) پھیرنا۔ — علی: کی طرف رخ کرنا، کی طرف توجہ کرنا، کا سامنا کرنا، کو یاد کرنا، کے متعلق فکرمند ہونا، کی طرف توجہ کرنا۔ لَوَى فِيه اللسان: کی غیبت کرنا، کی برائی کرنا۔ لایلوی علی شیء: کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، از حد غیر محتاط ہونا۔ لَيًّا و لَيَّانًا ه عن: کو سے چھپانا، کو سے صیغہ راز میں رکھنا۔ لَوِيَ ـ لَوًى: ٹیڑھا ہونا، جھکا ہوا ہونا، خمیدہ ہونا، لوٹ پوٹ ہونا، بل کھانا، چکر کھانا، بیل کا چڑھنا، کنڈلی مارنا، (سانپ وغیرہ کا)۔ لَوَّى ه: کو موڑنا، جھکانا، خم کرنا، بل دینا، مروڑنا، توڑنا، مروڑنا، پیچیدہ کرنا، الجھانا، میں الجھاؤ پیدا کرنا۔ اَلْوَى ه/ب: کو موڑنا، بل دینا، جھکانا۔ — ه عن: کو سے ہٹانا، پھیرنا، موڑنا ـ بيده: ہاتھ ہلا کر اشارہ کرنا۔ — ه: (جھنڈ) اونچا کرنا، اٹھانا۔ — ب: کو لیجانا ہٹانا، دور کرنا۔ اَلْوَى عنان الشیء عن: کو سے ہٹانا، پھیرنا، موڑنا، سے روکنا، باز رکھنا۔ —: قابو میں رکھنا۔ تـلـوَّى: بٹا ہوا ہونا، بل دیا ہوا ہونا، مروڑا ہوا ہونا، چکردار ہونا، پیچ در پیچ ہونا، پیچیدہ ہونا، پیچدار ہونا، جھکا ہوا ہونا، ٹیڑھا ہونا، موڑ والا ہونا، مڑنا، بل کھانا، بل کھاتے ہوئے جانا، کنڈل مارنا، بل کھاتے ہوئے چلنا، لوٹ پوٹ ہونا، پیچ و تاب کھانا، ہوشمندی اور چالاکی کا مظاہرہ کرنا۔ اِنْـلَوَى: جھکا ہوا ہونا، مڑا ہوا ہونا، بل دیا ہوا ہونا، بٹا ہوا ہونا، بل دیا ہوا ہونا، مروڑا ہوا ہونا، بل کھاتے ہوئے جانا، میں پیچ و خم ہونا، لپٹنا، چھپا ہوا ہونا، مروڑ اجانا، بل دیا جانا، اینٹھنا، بدشکل ہونا، ہٹ جانا، نکل جانا۔ — عن: کو چھوڑ دینا۔ — علی: کے لئے مشکل ہونا یا ہو جانا، الجھا ہوا ہونا یا ہو جانا، پیچیدہ ہونا یا ہو جانا۔ لَيُّ الشيشة: حقہ کی لچکدار نلکی۔ لایعرف الحيَّ من اللّيّ: اسے سانپ اور پانی دینے والی باغ کی نرم نالی میں تمیز نہیں، اسے بارش سے نکل کر اندر آنے کا بھی ہوش نہیں۔ لَوِيٌّ جمع اَلْواء: (پیٹ کا) مروڑ، قولنج، درد شکم، تکلیف درد، سختی۔ قاسی الالواء و اللأواء: ہزاروں موتیں مرنا۔ لَوِيٌّ جمع اَلْواء و اَلْوِيَة: خمیدگی۔ لِواء جمع اَلْوِيَة و اَلْوِيات: جھنڈا، علم، پرچم، بریگیڈ (فوج کا) (brigade)، میجر جنرل، ریئر ایڈمرل rear admiral، صوبہ، ضلع (عراق میں ملک کے ۱۴ الواء ہیں)۔ امیرُ اللواء: بریگیڈیر جنرل۔ لواء جوی: ہوائی فوج کا بریگیڈ۔

عَقَدَ لواءَ شيءٍ: کسی چیز کی بنیاد رکھنا، کسی چیز کو شروع کرنا، کسی چیز کو وجود میں لانا، کسی چیز کی تخلیق کرنا، کو بنانا، کا باعث ہونا، کو ابھارنا، کا باعث بننا۔ البارجة المعقود لواء ها للامیر ال: امیر البحر کا (پرچمی) جہاز۔عُقِدَ لَه لواءُ المجد زالنصر (فتح) اسے شہرت (فتح) کا لارل انعام میں دیا گیا۔غیرُ لاوٍ علی: وہ سے لاپرواہ ہے۔مُلتَوىً جمع مُلتَوِيَات: (سڑک کا) موڑ، پیچ بل، گولائی، خم۔

لوی: لَوى (ع کلمه و اور کلمه لام ی سے) یَلْوِی لَیًّا و لَوِیًا و لِوِیًّا الحبل: رسی بٹنا، موڑنا۔۔۔ الغلامَ: لڑکے کا بیس سال کا ہونا۔۔۔ عن الامر: میں سستی کرنا۔کہا جاتا ہے لَوَتِ اللیالی کفَّهُ علی العصا: راتوں نے اسے بوڑھا کر دیا۔۔۔ لَیًّا و لَیَّانًا امرَهُ عنی: اس نے اپنی بات مجھ سے پوشیدہ رکھی۔۔۔ سِرَّهُ: راز چھپانا، بھید کو صیغہ راز میں رکھنا۔۔۔ الحزنُ قلبَهُ: غم کا دل کو پھیر دینا۔۔۔ علیه: کی طرف جھکنا اور اس کا انتظار کرنا۔کہا جاتا ہے مَرَّ لایلوی علی احد: وہ بغیر رکے اور انتظار کئے گزر گیا۔۔۔ راْسَهُ او براْسه: سر کو پھیر لینا، اعراض کرنا۔۔۔ ت الناقة بِذَنبها: اونٹنی کا اپنی دم کو ہلانا۔۔۔ فلانا علی فلان: ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا۔کہا جاتا ہے فلانٌ لا یلوی ظهرَهُ: کسی کی سختی کا اظہار کرنا ہو تو کہتے وہ اپنی پیٹھ نہیں موڑتا۔لَوَّى تَلْوِيَةً علیه الامرَ: پر کام مشکل کر دینا۔کہا جاتا ہے لَوَّى اعناق الرجال: وہ غالب آ گیا۔اَلْوَى اِلْواءً براْسِه: سر کو جھکانا۔۔۔ت الناقة بذنبها: اونٹنی کا اپنی دم کو ہلانا۔تَلَوَّى تَلَوِّيًا الحبلُ: رسی کا بٹنا۔۔۔ت الحیّة: سانپ کا کنڈلی مارنا۔اِلْتَوَى اِلْتِواءً الحبلُ: رسی کا بٹنا۔۔۔ الامرُ: مشکل ہونا۔۔۔ عن الامر: میں سستی کرنا۔اللَّیَّة جمع لِوًى: لَوَى کا اسم مرہ۔مُلْتَوَى الوادی: وادی کا موڑ۔المَلاوِی: پیچ دار راستے۔کہا جاتا ہے یسلکو الملاوی: وہ پیچ دار راستوں پر چلے۔

لیأ: اَلْیَأَ اِلْیاءً ت الناقة: اونٹنی کا آہستہ چلنا۔

○ لِیَاءٌ: شارک مچھلی جس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔

لیت: ۱۔ لاتَ یلیتُ لَیتًا هُ عن كذا: کو سے ہٹانا، روکنا۔۔۔ زیدًا حقَّهُ: زید کے حق کو کم کرنا۔اَلاتَ اِلاتَةً ه عن كذا: کو سے ہٹانا، روکنا۔کہا جاتا ہے ما الاتَهُ من عمله شیئًا: اس نے اس کے کام میں سے کچھ کم نہیں کیا۔

۲۔ لات: دیکھیں لات۔اللِّیتُ جمع اَلْیات: گردن کا پہلو۔تثنیہ لیتان ہے۔لَیتَ: عموماً ناممکن کی تمنا کا حرف ہے۔جیسے لیت الشباب یعود: کاش جوانی لوٹ آئے، کسی قدر ممکن الحصول تمنا کے لئے بھی آتا ہے۔جیسے لیتَ العلیلَ صحیح: کاش بیمار تندرست ہو جائے، یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ماحرفیة سے مل کر اسماء کے ساتھ خاص ہونے سے بند نہیں ہوتا اس لئے لَیتَما قام زید نہیں کہا جاتا۔یائے متکلم سے متصل ہو تو کہا جاتا ہے لیتنی و لیتی لیکن موخر الذکر نادر ہے۔

○ لَیتَ و یالَیتَ: کاش۔لیتنی مِتُّ لاجلك: کاش میں تمہارے لئے مرجاتا۔لیته كان هنا: کاش وہ یہاں ہو۔یا لیتَ كان یذهب: کاش وہ چلا جاتا۔لیتَ شِعری: کاش میں جانتا۔لیتُرجِیَه جمع لترجیات: عیسائیوں کی دعاؤں کی کتاب، عیسائیوں کی نماز (کی ترکیب) (liturgy)۔لیتوانیا: لیتھوانیا (ملک کا نام)۔لیتوانی: لیتھوانیا کا باشندہ Lithuanian

لیث: اَلْیَثَ تَلْیِیثًا و لُیِّثَ و تَلَیَّثَ تَلَیُّثًا الرجلُ: شیر کی مانند ہونا۔لایَثَ مُلایَثَةً: سے شیر جیسا معاملہ کرنا، میں شیر کی صفت پر فخر کرنا۔اِسْتَلْیَثَ: شیر کی مانند ہونا۔اللائث (ح): شیر۔اللَّیث جمع لُیوث و مَلْیَثَة (ح): شیر، طاقت اور شدت۔اللَّیثَة جمع لَیثات (ح): شیرنی (ح): مضبوط اونٹنی۔الالْیَث م لَیثاء جمع لِیث: بہادر۔کہا جاتا ہے هو الْیَثُ اصحابه: وہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے۔المَلِیث: مضبوط، قوی۔المُلَیَّث: موٹا، چربی دار۔

۲۔ اللَّیثُ جمع لُیوث و مَلْیَثَة (ح): مکڑی کی ایک قسم، خوش بیان بلیغ۔

لیس: لَیِسَ یَلْیَسُ لَیَسًا الرجلُ: بہادر ہونا۔تَلَیَّسَ الرجلُ: صاحب طاقت و قوت ہونا۔الالْیَس م لَیساء جمع لِیس: بہادر، نڈر، بے خوف، بیباک (ح)، شیر، اونٹ جو ہر قسم کا بوجھ اٹھالے۔کہا جاتا ہے قوم لِیسٌ و لُوسٌ: سخت قوم۔

۲۔ لَیِسَ یَلْیَسُ لَیَسًا عنه: سے غافل ہونا۔تَلایَسَ تَلایُسًا عنه: سے چشم پوشی کرنا۔

۳۔ لَیسَ: حال کی نفی اور قرینہ سے غیر حال کی نفی کرنے کا لفظ۔جیسے لَیسَ خلقُ اللهِ مِثلَه: اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس جیسی نہیں، یہ غیر منصرف فعل ہے اس کا وزن فَعِلَ لیکن عین کلمہ ساکن ہو گیا ہے، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے جیسے کان اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ جیسے لَیسَ زیدٌ قائما: زید کھڑا نہیں، اس کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں۔اس سے استثناء کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے جاء نی القوم لیس زیداً: زید کے سوا سب لوگ میرے پاس آئے، اس کے اسم کے بعد الا بھی آتا ہے لیس الطیبُ الا المسْكُ: خوشبو تو صرف مشک ہے۔جملہ فعلیہ پر آنے کی مثال: لیس یقوم زیدٌ: زید کھڑا نہیں، مبتداء اور خبر پر آنے کی مثال لیس زیدٌ قادمٌ: لیس کی خبر پر نفی پر زور دینے کے لئے ب آتی ہے جس سے اس کا لفظ مجرور ہو جاتا ہے، اگرچہ محلا منصوب ہوتا ہے۔جیسے لیس الله بظالم: اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔

۴۔ لَیِسَ الشيءُ بالشيءِ: ایک چیز کا دوسری سے چمٹنا یا چپکنا (عوام کی زبان میں)۔اللَّیسِین: (جس کے ایک قطعہ کو لَیسِینَة کہا جاتا ہے) ناکارہ ریشم، ریشم کی ردی (عوام کی زبان میں) الالْیَس م لَیساء جمع لِیس: گھر ہی رہنے والا۔کہا جاتا ہے ابل لیس علی الحوض: تالاب سے جدا نہ ہونے والے اونٹ۔المَلایِس: ست رو۔

۵۔ تَلایَسَ تَلایُسًا الرجلُ: اچھے اخلاق والا ہونا۔الالْیَس م لَیساء جمع لِیس: خوش خلق۔

○ لیس ب: نہیں ہے وہ (کوئی چیز یا شخص)۔لیس الا: صرف، اور کچھ نہیں، اسکے سوا کچھ نہیں۔لیس ...... سوی: صرف، محض، نرا، اور کچھ نہیں۔لیس علی شیءٍ من الحقیقة: اس میں ذرہ بھر صداقت نہیں۔لیس۔فقط ...... بل: یہی نہیں، بلکہ ...... بھی۔لیس لنا شیءٌ: ہمارے پاس کچھ نہیں۔لیس له أن: اس کو کوئی حق نہیں کہ، اسے نہیں چاہئے کہ۔لیس من: سے متعلق نہیں، سے متعلق نہ ہونا۔اَلَیسَ كذلك: کیا ایسا نہیں۔لستُ بفاعل: میں یہ نہیں کر سکتا۔لَیِسَ: بہادر ہونا، دلاور ہونا، باہمت ہونا، جرات مند ہونا، دلیر ہونا، شجاع ہونا۔اَلْیَس: دلیر، شجاع، بہادر، باہمت، جرأت مند۔لیسانس: سند یافتہ ہونے کی ڈگری۔

لیص: لاصَ یَلیصُ لَیصًا: ایک طرف ہونا، یکسو ہونا، مائل ہونا، جھکنا۔۔۔ الشیءَ: کو نکالنے کے لئے ہلانا۔اَلاصَ اِلاصَةً الشيءَ: کو نکالنے کے لئے ہلانا۔۔۔ فلانا عن كذا: کو سے پھسلانا، کے لئے ورغلانا۔

لیط: لاطَ یَلیطُ لَیطًا: چمٹنا۔۔۔ الشيءُ بقلبه: محبوب ہونا، دل سے چپکنا۔۔۔ فلانًا بفلان: کو سے لاحق کرنا۔کہا جاتا ہے ما یلیط به النعیم: اسے آسائش راس نہیں۔لَیَّطَ تَلییطًا هُ به: کو سے

جوڑنا۔ الاطَ اِلاطَةً ہ کو چپکانا۔ اللِیاط: سیمنٹ، چونا، رنگ، سود۔ اللِیط (مص): رنگ۔ اللِیط: رنگ، عادت، کمال، ہر چیز کا چھلکا۔ کہا جاتا ہے: اَتَیتُهٗ ولِیطُ الشَّمسِ لم یُقشَر: میں اس کے پاس صبح صبح آیا جب ابھی سورج کی لالی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللِیطَة جمع لِیط و لِیاط و الیاط: نرکل کا چھلکا، کمان، نیزے کا ڈنڈا۔

٢۔ لاطَ یَلِیط لیطا اللّٰهُ فلانا: اللہ کا کسی کو لعنت کرنا۔

لیع: لاعَ یَلیع لَیعَانًا: تھکنا، اکتانا، بزدل ہونا، گھبرانا۔ ۔ لوعَةً ولَیعَةً الجوعُ فلانا: بھوک کا کسی کو سوزش میں مبتلا کرنا۔ الاعَ: تنگ دل ہونا، زچ ہونا۔ ریحٌ لَیاعٌ: سخت یا گرم ہوا۔ اللَیعَة: لاعَ کا اسم مرۃ۔ لَیعَةُ الجوع: بھوک کی شدت، بھوک کی جلن۔

لیغ: ١۔ لاغَ یَلیغ لَیغاً الشیءَ: کو پر پھسلانا، ورغلانا۔ ۔ الشیءَ: کو لینے کیلئے پھسلانا۔ الالیَغ م لَیغاء جمع لِیغ: صاف بات نہ کر سکنے والا، اس سے ضرب المثل ہے: دَرّی بما عندك یالیغاء: یعنی دل کی بات کھل کر بتا۔ یہ ضرب المثل اس کے لئے بولی جاتی ہے جو دل کی بات چھپاتا ہو۔

٢۔ تَلَیَّغَ تَلَیُّغاً: بے وقوف ہونا۔ اللَیَغ: کامل حماقت۔ اللَیاغة: بے وقوف، احمق۔ کہا جاتا ہے: رَجُل لَیاغَة: بے وقوف مرد۔ الالیَغ م لَیغاء جمع لِیغ: بے وقوف۔

٣۔ کہا جاتا ہے: طعامٌ سَیِّغٌ لَیِّغٌ: خوشگوار خوش ذائقہ کھانا۔

لیف: ١۔ لافَ یَلیفُ لَیفًا الطعامَ: کھانا کھانا۔

٢۔ لَیَّفَ تَلیِیفاً ت فسیلةُ النخل: کھجور کے پودے کا زیادہ اور موٹی چھال والا ہونا۔ ۔ فلانٌ اللیف: لیف کو بنانا۔ المُلَیِّف فلانا: مالشئے کا کسی کے بدن کو کھجور کے ریشے سے ملنا، اسفنج سے ملنا۔ اللیف واحد لیفة: کھجور وغیرہ کی چھال، ریشہ۔ اللِیفانی: کھجور کی چھال کے مشابہ، اسفنجی، لمبی داڑھی والا۔ لحیة لِیفانِیَّة: گھنی داڑھی۔ المُلَیِّف: حمام کا ملازم جو بدن ملنے پر مقرر ہوتا ہے۔

○ لَیَّفَ ہ: کو کھجور کے ریشے سے ملنا۔ تَلَیَّفَ: ریشے بنانا، ریشہ دار ہونا۔ لیف اسم جمع واحد لِیفة جمع الیاف: ریشے۔ لیف هندی: ناریل کے ریشے، ناریل کے ریشوں کی رسی۔ الیافُ الکتان: پٹ سن کے ریشے۔ لِیفَة: ریشہ، کھجور کے ریشوں کا گچھا جو برش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لِیفَة الاستحمام: نہانے کا اسفنج۔ لِیفی و لیفانی: ریشہ دار۔

لیق: ١۔ لاقَ یَلیق لَیقًا و لَیقَةَ الدواةَ: دوات میں صوف ڈالنا، روشنائی کو ٹھیک کرنا، ایسی دوات مَلِیقَة۔ ــــ ت الدواةُ: روشنائی کا دوات کے صوف سے چمٹ جانا۔ ــــ لَیقًا و لِیاقَةً و لَیاقًا و لَیَقانًا بفلان: کے پاس پناہ لینا، سے چمٹنا۔ کہا جاتا ہے: مَالِقتُ بعدكَ بارضٍ: تمہارے بعد میں کہیں نہیں ٹکا۔ هذا امرٌ لا یلیق بك ولا یَلیقُكَ: یہ کام تمہارے مناسب نہیں، تمہیں زیب نہیں دیتا۔ فلانٌ لا یلیق ببلد: فلاں شخص کسی شہر میں نہیں ٹھہرتا۔ ــــ به الثوبُ: کپڑے کا کسی کے موزوں و مناسب ہونا۔ کہا جاتا ہے: مایلیق ان تفعل کذا: تیرے لئے ایسا کرنا مناسب نہیں۔ لَیَّقَ الطعامَ: کھانے کو نرم کرنا۔ ۔ الثریدَ بالسمن: ثرید میں زیادہ گھی ڈالنا۔ الاقَ اِلاقةً الدواةَ: دوات میں صوف ڈالنا، دوات کی روشنائی کو ٹھیک کرنا۔ ــــ فلانا بنفسه: فلاں کو اپنے ساتھ لگا لینا۔ کہا جاتا ہے: ما الاقَتنی البصرةُ: میں بصرہ میں نہیں ٹھہرا۔ فلانٌ لا یُلیقُهٗ بلدٌ: کوئی شہر اُسے اپنے سے منسلک نہیں کرتا۔ فلانٌ ماتلیق یدُهٗ شیئا: فلاں کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی۔ هذا سیفٌ لا یلیق شیئا: یہ تلوار جس کو چھوتی ہے کاٹ ڈالتی ہے۔ اِلتَاقَ اِلتِیاقًا له: سے چمٹا رہنا، کے ساتھ ساتھ رہنا۔ ــ فلانٌ بفلان: فلاں شخص کا فلاں شخص سے دوستی کرنا، کہا جاتا ہے: اِلتاقَ قلبی بفلان: میرا دل اس پر آ گیا، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اِستَلاقَ ہ به: کو کے ساتھ جوڑ دینا۔ اللَیق: ایک سیاہ چیز جو سرمہ میں ڈالتے ہیں۔ اللیقة جمع لِیَق: لاقَ کا اسم: دوات کا صوف، چکنی مٹی دیوار وغیرہ لیپنے کے لئے۔ اللَیاق: مستقل مزاجی، چراگاہ۔ وجہٌ مُلتاقٌ: خوبصورت پیارا چہرہ۔

٢۔ اِلتَاقَ اِلتِیاقًا الرجل: مستغنی ہونا۔

٣۔ اللِیاق: آگ کا شعلہ۔ اللِیق: بادل کے متفرق ٹکڑے۔

٤۔ لَیقَنَ الشیءَ: پر لیقونہ کی تہ چڑھانا۔ لیقونہ ایک روغن کا نام ہے۔

○ لاقَ ـ لَیقًا ب: کے لئے موزوں ہونا، کو زیب دینا، سجنا، پھبنا، کے لئے مناسب ہونا، کے شایاں ہونا، کے لئے ٹھیک ہونا، کے لائق کے قابل ہونا، پر فٹ آنا، کے لئے فٹ ہونا ــــ کپڑے کا سجنا، پھبنا، فٹ ہونا۔ لِیقة جمع لِیَق: صوف جو دوات میں ڈالا جاتا ہے، پوٹین، چکنی مٹی، گارا، چونا۔ لِیاقة: موزونیت، مناسبت، سلیقہ، شائستگی، شعور، قابلیت، مہارت، صلاحیت، کمال، لیاقت، کارگزاری، کارکردگی، استعداد، اہلیت، استحقاق، خوبی، صحیح سلوک، بے داغ چال چلن، طور طریقہ، اچھے اطوار۔ مُخِل باللیاقة: نامناسب، نامعقول، ناشائستہ، ناموزوں، غیر شایان شان۔ الیَق: زیادہ موزوں، زیادہ مناسب، زیادہ ٹھیک، زیادہ برمحل، زیادہ فٹ (ب کے لئے)۔ لائق: موزوں، مناسب، ٹھیک، برمحل، شایاں شان، خوش، زیبا، مطابق موافق، فٹ، قابل، لائق، سزاوار، مستحق، قابل تعریف۔

لیل: لایَلَ مُلایَلَةً ہ: کو ایک رات کے لئے اجرت پر لینا۔ کہا جاتا ہے: عامَلَهٗ مُلایَلَةً: اس نے اس کے ساتھ رات کے لئے وہی معاملہ کیا جو اس نے دن کے لئے کیا تھا۔ الالَ اِلالاً و اَلیَلَ اِلیالاً القومُ: لوگوں کا رات میں داخل ہونا۔ لیلٌ لائلٌ: لمبی اور سخت تاریک رات، مہینہ کی سب سے زیادہ تاریک رات۔ اللَیل: سورج کے غروب ہونے سے فجر کے طلوع تک کا وقت یا سورج نکلنے تک کا وقت۔ مذکر و مؤنث جمع لَیالی۔ لیائل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللیل واحد ہے جمع کے معنی میں۔ اور اس کا واحد لَیلة ہے جیسے تمر کا واحد تمرہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللیل اللیلة کی مانند ہے جس طرح عشی اور عشیّة۔ اللیلة جمع لَیلات: بمعنی اللیل یا اس کا واحد جیسے اوپر بیان ہوا۔ اللَیلِیّ: رات کی طرف منسوب، رات کا سفر پسند کرنے والا۔ لَیلی الخمر: شراب کی سرگرانی یا نشہ کی ابتداء۔ ام لَیلی: سیاہ رنگ کی شراب۔ لَیلة لَیلی: طویل سخت تاریک رات۔ لَیلة لَیلاء: طویل سخت تاریک رات۔ لَیلٌ اَلیَلُ و مُلَیَّلٌ: طویل سخت تاریک رات۔

○ لَیالی: لَیلاً: رات کو۔ لَیلَ نَهارَ: دن رات۔ لَیلة جمع لَیلات و لَیالٍ و لَیائل: رات (دن کے مقابلہ میں) شام۔ اللَیلة: آج رات۔ بینَ لیلةٍ و ضحاها: ایک رات پہلے، رات کی رات۔ لیلةَ اَمسِ: گزشتہ رات، گزشتہ شام۔ لَیلة الدُخلة: شب عروسی۔ لَیلة راقصة: شام کا ناچ، شام کا رقص۔ لیلة زاهرة: شام کی دلفریب پارٹی۔ لیلة شادیة: صوتی موسیقی کی محفل۔ لیلة لیلاء: تاریک رات۔ فی لیلةٍ لیلاء: رات کی تاریکی میں، رات کے پردوں میں۔ لیلةُ القدر یا لیلة القضاء: وہ رات جس رات قرآن کا نزول ہوا، ٢٦ اور ٢٧ رمضان کی درمیانی رات۔ لیلة المعراج: ٢٧ رجب کی رات جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سات آسمانوں کا سفر کیا۔

م

م۔ تلفظ میم۔ حروف تہجی کا ۲۴واں حرف۔ یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ اور حروف ابجد میں ۴۰ کے برابر ہے۔ جمع مذکر پر دلالت کرتا ہے جیسے ذلکم بما کنتم تستکبرون فی الارض۔ کبھی حرف قسم کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جلالت سے مخصوص ہوتا ہے۔ جیسے: مالله لافعلنّ۔ کبھی حرف جر کے بعد استفہام کے اسم کے طور پر آتا ہے۔ جیسے بمَ وعلامَ۔ اس کی اصل ما استفہامیہ ہے۔ اس پر فتحہ آتی ہے۔

○ ما: کیا؟۔ الی مَ: کدھر (کو)؟ کہاں؟ کس راستے؟ بمَ: کس کے ساتھ؟ جس سے کہ؟ لِمَ: کیوں؟ کس لئے؟ حتیٰ ما: کتنی دُور؟ کس مقام تک؟

ما ا۔ حرف نفی جیسے: ماھذا بشرا (یہ انسان نہیں)۔ ۲۔ حرف زائد: جیسے فبما رحمۃ من اللّٰہ لِنتَ لھم۔ پس خدا کی رحمت سے تو ان کے لئے نرم ہوا (یعنی برحمۃ من اللہ کے معنی ہیں) ۳۔ حرف کافہ عن العمل جیسے: کانما یساقون الی الموت (گویا وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں)۔ ۴۔ حرف مصدر جیسے: وضاقت علیھم الارض بما رحبت (ای برحبھا) باوجود فراخ ہونے کے زمین ان پر تنگ ہوگئی۔ ۵۔ مصدریہ کے ساتھ وقت ملحوظ ہوتا ہے، اور مصدریہ ظرفیہ کہلاتا ہے، جیسے: واوصانی بالصلوٰۃ والزکاۃ مادمتُ حیًّا (اس نے مجھے زندہ رہنے تک نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا یا اس نے مجھے اس وقت تک نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ گویا عربی میں کہا گیا مدۃ دوامی حیاً (زندہ رہنے تک یا اس وقت تک جب تک میں زندہ رہوں) ۶۔ اسمیہ استفہامیہ اور اس سے غیر عاقل کے متعلق سوال کیا جاتا ہے جیسے: ماعندک (تیرے پاس کیا ہے۔ اور عاقل کی صفات کے بارے میں بھی اس کے ذریعے پوچھا جاتا ہے جیسے: ما زیدٌ (زید کیا ہے؟) تو مثلاً جواب میں کہا جائے گا: عاقلٌ او احمقُ: عقل مند ہے یا بے وقوف ہے۔ ۷۔ حرف سے مجرور ہو تو اس کا الف محذوف ہو جاتا ہے اور میم پر فتحہ رہ جاتی ہے۔ جیسے بمَ و علامَ (کس سے، کس پر)۔ کبھی میم ساکن بھی ہو جاتی ہے۔ ۸۔ اسم موصول کے طور پر جیسے: ماعندکم ینفد وما عند اللّٰہ باق (ای الذی عندکم) (جو کچھ تمہارے پاس ہے، ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا)۔ ۹۔ جزاء کے اسم کے طور پر: مایفعَلْ افعَلْ: جو کچھ وہ کرے گا میں کروں گا اس صورت میں یہ جملہ شرطیہ ہوتا ہے اور دونوں فعل مجزوم ہوتے ہیں۔ ۱۰۔ تعجب کے اسم کے طور پر جیسے: ما اَحْسَنَ زیداً (زیاد کیا ہی خوبصورت ہے!) مصدر کی تاویل میں فعل کے ساتھ ملا اسمیہ کے طور پر جیسے بَلَغَنی ماصنعت (ای صنیعک) (مجھے تیرا فعل پہنچ گیا۔ یعنی جو تو نے کیا مجھے پہنچ گیا۔ ۱۱۔ نکرہ موصوفہ کے طور پر جیسے: مررتُ بما معجبٍ لک (ای بشیء معجبٍ لکَ) (میں ایسی چیز سے گزرا جو تجھے پسند ہے) ۱۲۔ ابہام کے لئے بطور اسم جیسے: اَعْطِنی کتاباً ما: مجھے کوئی کتاب دے۔ جاء لامرٍ ما (ای لامرٍ من الامور) (وہ کسی کام سے آیا)۔ یہ ما ابہامیہ کہلاتا ہے لیکن اس قول میں جیسے غسلتُہُ غسلاً نِعِمًّا تو یہ غسلتہٗ نِعمَ الغسل کے مفہوم میں ہے یعنی میں نے اس کو خوب دھویا۔

۲۔ الماھیۃ من الامر او الشَیء: کسی چیز یا امر کی حقیقت، نوعیت یا جو کیا جائے اور ہر وہ چیز جو یہ پوچھنے والے کے جواب میں کہے کہ ماھو (وہ کیا ہے؟) خصوصیت، خاصیت، ماہیت، وصف، خصلت، خاصہ، جوہر، ست، روح، نوع، نوعیت، بناوٹ، ترکیب، ساخت، قسم۔

۳۔ الماء: دیکھیں موہ۔

○ ما: کیا۔ لِما: کیوں۔ کس لئے، کس وجہ سے؟ ماذا: کیا؟ لِماذا: کیوں؟ مالکَ: تمھیں کیا ہوا۔ یہ کیا ہے مالیْ ومالک (وغیرہ) کیوں، کس لئے، کس وجہ سے، میں کیوں، تم کیوں؟ مالتَ و ذاکَ: اس کا تمھارے ساتھ کیا تعلق، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ ما اجْمَلَہٗ: وہ کتنا خوبصورت ہے؟ ما افْضَلَ عمرَ: عمر کتنا اعلیٰ ہے: ۲۔ وہ جو، جو، جو کچھ بھی، جو بھی، وہ سب۔ کثیراً ما: اکثر، اکثر اوقات، بارہا، بسا اوقات۔ بمافیہ: جس میں کوئی چیز شامل یا داخل ہو، پر مشتمل۔ (کے) سمیت، مع، بشمول، ساتھ، ماکان من امضاء المعاھدۃ: یہ حقیقت کہ معاہدہ پر دستخط ہو گئے ہیں، معاہدہ پر دستخط ہو کر۔ ۳۔ کچھ، کوئی، کوئی ایک، ایک خاص، بعض مخصوص، تھوڑا سا، لامرٍ ما: کسی بات کی وجہ سے، کس وجہ سے، یوماً ما: کسی دن، مستقبل میں کسی وقت۔ ۴۔ ما اِن: نہیں، نہ۔ ما اِن حتّٰی: اِدھر (ایسا ہوا) اُدھر، بمشکل (ایسا ہوا) جب ...... وماھِیَ اِلاَّ اَنْ وما ھو الا ان: جلدی، تھوڑی دیر میں، لازمی طور پر، اسی وقت، اس وقت، تب، چنانچہ اس سبب سے وماھی الا ان...... حتی: جونہی، جونہی کہ، جیسے ہی، (وہ) ابھی بمشکل ...... کہ ...... ۵۔ مادمتُ: جب تک میں۔ مادمتُ حیًّا: جب تک میں زندہ رہوں یا رہا۔ مالَمْ: جب تک ...... نہ، جب تک نہ۔ ماواتتنیَ الفرصُ: جب بھی مجھے موقع ملا۔ مابین: پیش دالان۔ ڈیوڑھی، میر صاحب

کادفتر (عثمانی ترکیہ میں)۔ماتینیہ: سینما کا صبح کا شو، تیسرے پہر کا ناٹک۔مَاجستیر: ماسٹر،سکول ماسٹر۔مَاخور جمع مَواخیر: چکلہ۔قحبہ خانہ۔

ماج: ا۔مَوَجَ - مُؤُوجَۃً: بے وقوف ہونا۔المَاج: بے وقوف،بے آرام،مضطرب،اضطراب۔

۲۔مَوَجَ - مُؤُوجَۃً الماء: پانی کا کڑوا اور کھارا ہونا۔ المَاج: کڑوا اور کھارا پانی۔

ماد: مَادَ - مَادًا: نرم ونازک ہونا۔النباتُ او الشجرُ: نباتات کا لہلہانا، تروتازہ ہونا اور اس میں پانی بہنا۔ درختوں کا لہلہانا،تروتازہ ہونا اور ان میں پانی بہنا۔ اَمَادَ الریُّ النباتَ: آبپاشی کا نباتات کو تروتازہ کرنا۔اِمْتَادَ الخیرَ: بھلائی کمانا۔المَاد و الیَمُوْد: تروتازہ نازک۔کہا جاتا ہے رجلٌ غُصْنٌ مَادٌ و یَمُوْدٌ: تروتازہ اور نرم نازک مرد۔جاریۃ مَادَۃ و یَمُوْدٌ و یَمُوْدَۃ: تروتازہ اور نرم نازک لڑکی۔المَید: نازک۔

مار: ا۔مَارَ - مَارًا بین القوم: قوم میں فساد ڈلوانا، قوم کو فساد پر ابھارنا۔ مَئِرَ - مَارًا علی فلان: کیلئے دشمنی محسوس کرنا۔مَاءَرَ مِئَارًا و مُمَاءَرَۃً بین القوم: قوم میں فساد ڈلوانا، قوم کو فساد پر ابھارنا۔اِمْتَأَرَ علی فلان: کے لئے نفرت محسوس کرنا،سے نفرت کرنا۔المَئِر: مُفسد، فسادی ۔۔۔ من الامور: سخت مشکل کام۔المِئر: مفسد۔المِئرَۃ جمع مِئَر: دشمنی،چغل خوری۔امرٌ مَئِیر: سخت کام۔

۲۔مَأَرَ - مَأْرًا السقاء: مشک کو وسیع کرنا۔مَئِرَ - مَأَرًا الجرحُ: زخم کا خراب ہونا، سوج جانا۔

۳۔مَاءَرَ مِئَارًا و مُمَاءَرَۃً: سے فخر میں مقابلہ کرنا۔۔۔۔فی فعلہ: کسی کام میں برابری کرنا۔تماءَرَ تَمَاؤُرًا: آپس میں فخر کرنا۔

☆مار: (عیسائیوں کے ولیوں کے ناموں سے پہلے لگایا جاتا ہے بمعنی روحانی نواب۔ولی (عیسائیوں میں)

مَارِس: مارچ (مہینہ)۔مَارِسْتَان: پاگل خانہ۔مارش: چلتے وقت فوج کا گیت،کوچ کی دھن۔مَارشَال: مارشل،فیلڈ مارشل۔مَارشَال جوی: ایئر مارشل (air marshal)مَارشَالیۃ: مارشال کا عہدہ یا حیثیت۔مَارْك جمع مارکات: مارک۔(نظام زر کے متعلق یونٹ)مَارکسی: کارل مارکس کا پیرو کار۔مارکسی۔مَارکسیۃ: مارکسزم۔marxism۔مارکۃ جمع مارکات: مارک۔نشان،نشانی،ٹوکن۔مَارکۃ تجاریۃ: ٹریڈ مارک(trade mark)مَارونی (جمع مَوَارِنَۃ (اسم وصفت)maronite

مازوت: مَازوت mazut،بھاری تیل۔

ماس: مَأَسَ - مَأْسًا علیہ: پر غضبناک ہونا۔ بین القوم: لوگوں میں فساد ڈلوانا۔الدبّاغُ الجلدَ: رنگریز کا چمڑے کو ملنا،مسلنا۔ و مَئِسَ - مَأَسًا الجرحُ: زخم کا سوجنا، خراب ہونا، کشادہ ہونا۔ المَأْس: وہ شخص جو کسی کی نصیحت پر توجہ نہ کرے اور قبول نہ کرے۔المائِس و المَآس و المَؤُوس و المِمْأَس و المِمْآس: چغل خور، فساد انگیز، مفسد۔

☆مَاس و مَاسَۃ (الماس کیلئے): ہیرا۔الماس۔ماسی: ہیرے جیسا۔

ماسُورۃ جمع مَواسِیر: پائپ۔ٹیوب۔پانی دینے والی نرم نالی (hose)۔پانی کا پائپ،نل۔بڑی نالی water main، بندوق (وغیرہ) کی نالی، بڑی نالی کا پائپ۔پائپ لائن (pipeline) خصوصاً تیل کی۔مَاسُون، فری میسن freemason۔مَاسُونی: فری میسنی۔مَاسُونیۃ: فری میسن نظام (freemasonry) (فری میسن: ایک خفیہ انجمن (دراصل مسیحی) کا رکن)

ماش: مَأَشَ - مَأْشًا عنہ بکذا: کو سے کے ذریعے ہٹانا۔۔۔۔المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کو سیراب کرنا۔مطرٌ مَئِیش: زمین کو سیراب کرنے والی بارش۔

☆مَاشِك جمع مَوَاشِك: چمٹا،آگ کا چمٹا۔(fire tongs - tongs)

ماق: مَئِقَ - مَأَقًا الصبیُّ: بچہ کا سسکی لینا۔صفت مَئِق۔الرجلُ: سخت غضبناکی سے رونے والا ہونا۔اَمْأَقَ: سسکی لینا۔اِمْتَأَقَ: سسکی لینا، سسکی لینا۔۔غضبُہُ: سخت غضبناک ہونا۔الیَّ بالبُکاء: میرے پاس روتے ہوئے آنا۔المَأَق: رونے کی شدت۔شدت گریہ۔ جمع آماق و اَمْآق و مَوَاقٍ مَاق و المُؤْقِی و المُوْقِی و المَأْقی جمع مَآق: ناک کی طرف کا آنکھ کا کویا۔گوشہ،چشم جہاں سے آنسو بہتے ہیں۔المَئِق: جلد رو پڑنے والا۔ اس سے مثل ہے: انا تَئِقٌ و انت مَئِقٌ: تئق جلدی سے شرارت کرنے اور انتقام لینے والے کو اور مَئِق جلدی سے رونے لگنے والے کو کہتے ہیں۔مثل دو مختلف مزاج والوں پر بولی جاتی ہے۔دوسرا شخص رونے پر اکتفاء کرتا ہے اور جوابی کاروائی نہیں کرتا۔المَأْقَۃ: شدت غضب،غصہ کی تیزی،حمیت،غرور،تکبر۔المَأْقَۃ: گریہ۔رونا۔ہچکی۔ سسکی۔المُؤْق و المُؤُق جمع آماق و اَمْآق و مَوَاق

و مَأْق۔(ع): ناک کی طرف کا آنکھ کا کویا۔جمع آماق۔من الارض: زمین کے نشیبی اطراف یا پوشیدہ اطراف۔المَوَاقی واحد مَاقِی: ناک کی طرف آنکھوں کے کوئے۔

☆مَئِقَ - مَأَقًا: سسکی بھرنا۔سسکی لینا۔ہچکی لینا۔مَأْق جمع مَآق: آنکھ کا اندرونی گوشہ۔مَأْقَۃ: ہچکی۔سسکی۔ہچکی۔ہچکی بھرنا۔سسکی لینا۔مُوق جمع آماق: آنکھ کا اندرونی گوشہ۔

☆مَاکِیَاج: میک اپ۔بناؤ سنگار۔

مَاکِیْنَۃ جمع مَاکینات و مَکَائِن: مشین (machine)

مال: مَأَلَ و مَئِلَ۔و مَؤُلَ - مُؤُولَۃً و مَأَلَۃً: موٹا ہونا، ہٹا کٹا ہونا۔صفت مَئِلٌ و مَأْلٌ: کہا جاتا ہے: جَاءَہُ امرٌ مَا مَأَلَ لہ مَأْلًا: اس کو ایسا معاملہ پیش آیا جس کے لئے وہ تیار نہ تھا اور نہ اس کو اس کا علم تھا۔المَأْل: پناہ گاہ۔جائے پناہ۔المَأْلَۃ جمع مِئَال: باغ، چکی۔المُتَمَئِّل: سیدھا دراز قامت مرد۔

۲۔المَالِج جمع مَوَالِج: کرنی۔لپائی کو برابر کرنے کا آلہ۔فارسی لفظ ہے۔فصیح عربی میں اسے المِسْیَعۃ کہتے ہیں۔عوام کہتے ہیں مالش یا مالج (ہمزہ کے بغیر)۔

☆مالطۃ: مالٹا Malta ایک ملک کا نام۔مَالطی (صفت اور اسم) مالٹا کا، مالٹا کا باشندہ۔

مَالَنخُولیا یا مَالیخولیا: مالیخولیا۔خفقان۔وحشت۔سودا (Melancholia)

مأم: مَأْمَأَ مَأْمَأَۃً الشاۃُ او الظبیۃ: بکری یا ہرنی کا ممیانا۔میں میں کرنا۔

مان: ا۔مَأَنَ - مَأْنًا القومَ: کو خوراک دینا۔کہا جاتا ہے مَانَہُم یمونہم (اجوف سے)۔۔۔۔الرجلَ: سے چوکنا رہنا، بچنا۔کہا جاتا ہے: اَتَانِی ہذا الامرُ فما مَأَنْتُ لہ اَوْ ما مَأَنْتُ مَأْنَہُ: یہ معاملہ مجھے پیش آیا تو میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی یا اس کا مجھے علم نہ ہوا یا میں اس کے لئے تیار نہ تھا اور میں نے اس کے لئے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔کہا جاتا ہے: اَمْأَنْ مَأْنَكَ و اشأَنْ شأْنَكَ: جو تجھے اچھا لگے وہ کر۔انا اَمْأَنُہُ: میں اسے اچھی طرح کرتا ہوں۔مَأَّنَ تَمْئِنَۃً الشیءَ: کو تیار کرنا۔فلانًا: کو بتانا، اطلاع دینا۔فی الامر: پر غور کرنا،نظر کرنا۔سوچنا۔مَاءَنَ مُمَاءَنَۃً فی الامر: پر غور و تدبر کرنا۔المَأْن: کدال۔المُؤْنَۃ و المَؤُونَۃ جمع مُؤَن: خوراک،شدت، بوجھ۔المَئِنَّۃ: نشان، علامت۔المُمَاءَنَۃ: مناسبت، موزونیت۔اہلیت، قابلیت۔کہا جاتا ہے: ھو مَئِنَّۃٌ لکذا: وہ اس کا

اہل ہے۔ وہ اس کے لئے موزوں ہے۔

۲۔مَانَ - مَانًا الرجلَ: کے ناف پر مارنا۔ المَان: کمر۔ پہلو۔ المَانَة جمع مَانَات و مُؤُون۔ کمر۔ پہلو۔ ناف اوراس کے گرد کا حصہ۔

۳۔تَمَاءَنَ تَمَاؤُنًا الشئ: پرانا ہونا۔

☆مَانَ - مَانَاه: کو خوراک مہیا کرنا، کھانے پینے کا سامان فراہم کرنا، ذخیرہ فراہم کرنا، کو سامان خورد و نوش فراہم کرنا۔ مَانَة جمع مَان و مُؤُون: ناف۔ نافہ۔ ناہالی علاقہ۔ مُؤْنَة و مَؤُونَة جمع مُؤَن: سامان خورد و نوش خوراک، ذخیرہ، سٹاک (stock)۔ سپلائی۔ بوجھ۔ جھنجھٹ۔ دقت۔ تکلیف۔ زحمت۔ مشکل۔ محنت۔ کوشش۔ مُؤَنٌ حَرْبِيَة: سامان حرب۔

ماو: مَا - يَمْؤُو مُؤَاءَ السِّنَّورُ: بلی کا میاؤں کرنا۔ الجلدَ: چمڑے کو کھینچ کر چوڑا کرنا۔ بينهم: لوگوں میں فساد برپا کرنا۔ تَمَأَى تَمَئِيًا الجلدُ: چمڑے کا کھنچ کر چوڑا ہونا۔ الشرُّ بينهم: لوگوں میں فساد پھیلنا۔ المَاوَة جمع مَاوٌ: نشیبی زمین۔

مأى: ا۔مَأَى يَمْأَى مَأْيًا الجلدَ: چمڑے کو کھینچنا۔ الشجرُ: درختوں کا پتوں سے بھر جانا۔ بينهم: لوگوں میں فساد ڈالنا۔ في الامر: میں مبالغہ کرنا۔ تَمَأَّى تَمَئِّيًا السقاءُ: مشک کا چوڑا اور پھیلنا۔ الشرُّ بين القوم: لوگوں میں فساد کا پھیل جانا۔

۲۔مَأَى يَمْأَى مَأْيًا القوم: لوگوں اور اپنے آپ کو شامل کر کے سو واں کرنا۔ صفت مُمْئِيُون: أَمْأَى إِمْاءً القومُ: لوگوں کا سو ہو جانا صفت مُمْئُون۔ القومَ: قوم کا اپنے سمیت تعداد میں سو کرنا۔ المِائَة جمع مِئَات و مِئُون و مُئُون و مُؤُون و مِئِي (لکھنے میں الف کے ساتھ مگر لفظاً نہیں)۔ سو۔ نسبت کے لئے مِئَوِي۔ کہا جاتا ہے شَارَطَهُ مُمَاءَاةً: اس نے اس کے ساتھ سو پر یا سو کی شرط لگائی جیسے کہا جاتا ہے شَارَطَهُ مُؤَالفة: اس نے اس کے ساتھ ہزار ہزار کی شرط لگائی یا ہزار پر شرط لگائی۔

☆في المئة: فی صد۔ بفي صدي۔ مِئَوِي و مئيني: سو واں عِيدٌ مِئَوِي: سو ویں سالگرہ۔ صد سالہ سالگرہ۔ نِسْبَةٌ مِئَوِيَة یا نِسْبَةٌ مئينية: فی صد۔ درجة مئوية: سنٹی گریڈ (Centigrade)۔

مايو: مئی (May)

متّ: مَتَّ - مَتًّاه: کو کھینچنا۔ الحبلَ: رسی کو بغیر چرخ کے کھینچنا۔ الى فلان بقرابةٍ: سے تعلق پیدا کرنا، کا رشتہ دار ہونا کہا جاتا ہے بيننا رَحِمٌ مَاتَّة: ہمارے درمیان قریبی رشتہ داری ہے۔ ـهُ: سے قرابت ڈھونڈنا۔ مَاتَّ فلانًا: کو رشتہ کے تعلقات یاد دلانا۔ المَاتَّة جمع مَوَاتّ و المَتَات: وسیلہ، قرابت۔ رشتہ داری، حرمت۔

○مَتَّ - مَتًّا ه: کو پھیلانا، بڑھانا، لمبا کرنا، وسیع کرنا، کھینچنا (میں) مبالغہ کرنا۔ …… الى ب: کے ساتھ بذریعہ شادی رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ …… الى کے ساتھ تعلقات میں حصہ لینا، شادی کر کے کا رشتہ دار ہونا یہ ہو جانا، کے خاندان میں شادی کرنا، کے متعلق ہونا، کا ساتھی بننا، رفیق بننا، ہم صحبت ہونا، سے متحد ہونا، سے مربوط ہونا۔ مَتَّ بصلة الى: کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنا، شادی سے کسی کا رشتہ دار ہونا۔ سے مربوط ہونا، سے تعلق ہونا۔ مت له باقرب الصلة: کے ساتھ انتہائی خوب اور گہرا تعلق ہونا۔ مَاتَّة: قریبی تعلقات، خاندانی تعلقات، رشتہ داری۔

متا: مَتَا - مَتْوًا ه بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔

متح: ا۔مَتَحَ - مَتْحًا الماءَ: پانی کنویں سے نکالنا۔ الدلو وبها: ڈول کھینچنا۔ صفت فاعلی مَاتِحٌ و مَتوح۔ الشئ …… کو اکھیڑنا۔ الشجرة: درخت کاٹنا۔ الخمسين: پچاس کے قریب ہونا۔ تَمَتَّحَ ت الابلُ في سيرها: اونٹوں کا چلتے ہوئے پاؤں ہلانا۔ امْتَتَحَ الشئَ: کو جڑ سے اکھیڑنا۔ المَتَاح: بہت لمبا۔ کہا جاتا ہے يوم مَتَّاحٌ و فرسخ مَتَّاح: بہت لمبا دن۔ بہت لمبا فرسنگ (لمبائی کا پیمانہ)۔ المَتوح: پانی نکالنے والا۔ دُور۔ بئر مَتوحٌ: قریب پانی والا کنواں۔

۲۔مَتَحَ - مَتْحًا و مَتَّحَ و أَمْتَحَ الجرادُ: ٹڈی کا انڈے دینا۔

۳۔مَتَحَ - متحا فلانًا: کو مارنا، پچھاڑنا۔

○مَتَحَ - مَتْحًاه: پانی کنویں سے نکالنا

متخ: ا۔مَتَخَ - مَتْخًا الشئَ: کو اکھیڑنا، کاٹنا، اونچا کرنا۔ بالدلو: ڈول کھینچنا۔ الشئُ: بلند ہونا۔ الخمسين …… پچاس کے قریب ہونا۔ …… الشئ: کو اکھاڑنا۔ عودٌ مِتِّيخ: لمبی اور نرم لکڑی۔

۲۔مَتَخَ - مَتْخًا بسلحه: بیٹ کرنا۔ …… ه بالسهم: کو تیر سے مارنا۔ فلانًا: کو مارنا۔ دور کرنا۔ المِتِّيخَة: چھڑی، لاٹھی، کوڑا (جس سے مارا جائے)۔

۳۔مَتَخَ - مَتْخًا الجرادُ: ٹڈی کا انڈے دینا۔ …… في الشئ: میں گڑ جانا۔

متد: مَتَدَ - مُتُودًا بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔

متر: ا۔مَتَرَ - مَتْرًا الحبلَ: رسی کو کھینچنا۔ تماتر القومُ الشئَ: کو مل کر کھینچنا۔ امْتَتَرَ امْتِتَارًا الحبلَ: رسی کا کھنچنا۔ المِتْر جمع امتار: میٹر۔ المِتيُورُوكراف: موسمی حالات میں تغیر ریکارڈ کرنے کا آلہ۔

۲۔مَتَرَ - مَتْرًا بسلحه: بیٹ کرنا۔ تَماتَر: گرنا۔

۳۔مَتَرَ - مَتْرًا الشئَ: کو کاٹنا۔

○مِتْرِي: میٹر سے متعلق، پیمائش سے متعلق۔ مِتْرَ اليوز: مشین گن۔

متس: مَتَسَ - مَتْسًا الشئَ: کو اکھیڑنے کے لئے جھکانا۔

متش: مَتَشَ - مَتْشًا الشئَ: کو انگلیوں سے بکھیرنا۔ جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اخلاف الناقة: اونٹنی کو آہستہ آہستہ دوہنا۔ مَتِشَ - مَتَشًا ت عينُهُ: دھوپ کی تمازت یا بھوک سے آنکھ کا چندھیانا، دھندلی ہونا۔ جس کی آنکھ چندھیا جائے یا دھندلی ہو جائے اسے امْتَش کہتے ہیں۔ مونث مَتْشاء جمع مُتْش۔

متع: ا۔مَتَعَ - مُتوعًا الشئُ: لمبا ہونا، دراز ہونا۔ النهارُ: دن چڑھنا یا سر پر آ جانا۔ السرابُ: پہلے پہر سراب کا بلند ہونا۔ الحبل: رسی کا مضبوط ہونا۔ …… النبيذُ: نبیذ کا بہت سرخ ہونا۔ الرجلُ: کا خوش طبع ہونا۔ مَتْعًا و مُتْعَة بالشئ: کو لے جانا۔ مَتُعَ - مَتَاعَةً الرجلُ: خوش طبع ہونا، ظریف ہونا۔ مَتَّعَ الشئَ: کو لمبا کرنا۔ ـهُ۔ اللّٰهُ بكذا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو کسی چیز سے دیر تک فائدہ اور حظ اٹھانے دینا۔ …… المرأة المطلّقة: مطلقہ عورت کو مہر دینا۔ أَمْتَعَهُ اللّٰه بكذا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو کسی چیز سے دیر تک فائدہ اور حظ اٹھانے دینا۔ کہا جاتا ہے أَبْقَاكَ اللّٰهُ و أَمْتَعَ بك: اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے۔ بماله: کے مال سے فائدہ اٹھانا، متمتع ہونا۔ …… عن كذا: سے مستغنی ہونا۔ کہا جاتا ہے أَمْتَعَني بفراقه: اس نے اپنی جدائی کو میری متاع بنا دیا۔ تَمَتَّعَ و اِسْتَمْتَعَ بكذا و من كذا: سے عرصہ تک فائدہ اور لذت حاصل کرنا۔ بماله: مال سے آسودہ زندگی گزارنا۔ المَاتِع (فا): طویل۔ دراز، بہت عمدہ چیز۔ بہت اونچے یا نیچے پلڑے والا ترازو۔ عمدہ، عمدہ بٹی ہوئی رسی۔ بہت سرخ نبیذ یا سرکہ۔ رجُل ماتِع: اچھی عادتوں میں کامل۔ المُتْعَة: مشک۔ ڈول۔ رسی۔ والمتعة جمع مُتَع و مِتَع: تَمَتُّع کا اسم۔ تھوڑا زاد، ذریعہ معاش، شکار یا خوراک جس سے تمتع حاصل ہو۔ کہا جاتا ہے أَبْغِني متعة اعيش بها: ذریعہ معاش حاصل کرنے میں میری مدد کرتا کہ اسکے ذریعے زندگی بسر کروں۔ مُتْعَةُ المرأة: قمیص۔ آزار و چادر جو مطلقہ

عورت کو دیے جاتے ہیں۔ یہی متعة الطلاق ہے۔

المتاع جمع أمتعة و جمع الجمع أماتع و أماتيع: چاندی سونے کے علاوہ زندگی کا سامان، پہننے اور بچھانے کی چیزیں۔ ہر وہ فانی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پھر وہ فنا کی نذر ہو۔ کہا جاتا ہے: انما الحياة الدنيا متاعٌ: دنیا کی زندگی محض فائدہ اٹھانے کی چیز ہے جسے دوام نہیں۔

۲۔ متع ـ متعاً و متعاً بفلان: سے جھوٹ بولنا۔

○ متع ـ متعاً و متعةً ب: کو لیجانا۔ متوعاً: مضبوط، سخت اور ٹھوس ہونا۔ متع النهارُ: دن چڑھ آنا، سورج کا اونچا ہونا۔ متّع ہ ب: کو سے لطف اندوز کرنا۔ ـ ہ ب کو کچھ فراہم کرنا، کو سے لیس کرنا، کو کچھ مہیا کرنا۔ ـ ہا: مطلقہ عورت کو کچھ بطور معاوضہ دینا۔ متّعہُ اللہ: اللہ تعالیٰ اسے تمام عمر خوشیاں دے۔ متّع البصرَ: آنکھ کی تسکین کرنا۔ أمتع ہ ب: کو سے لطف اندوز کرنا۔ ...... ب: کا بلا ملکیت حق استعمال و استفادہ رکھنا۔ تمتّع و استمتع ب: سے لطف اندوز ہونا، مزا اٹھانا، سے استفادہ کرنا۔ المتعة جمع متع: لطف، خوشی، لذت، سرور، تسکین، فرحت، تفریح، مطلقہ عورت کو دیا گیا ہرجانہ/معاوضہ، تلافی۔ متعة: عارضی شادی جنسی لطف اندوزی کے لئے اور مقررہ وقت کے لئے ملکیت کے حق کے بغیر شادی۔ اسے نکاح المتعة بھی کہا جاتا ہے۔ اماکن المتعة مراکز تفریح۔ متاع جمع أمتعة: لطف، خوشی، تسکین، خوشی کی چیز، ضروریات زندگی، خانگی سامان، جائداد منقولہ، اثاثہ، سامان، مال، مال تجارت، فرنیچر، سامان، برتن، گھر کے استعمال کی چیزیں، روز مرہ استعمال کی چیز، اشیاء چیزیں، متفرقات۔ متاع العين: آنکھوں کا سامان راحت۔ سقط المتاع: سکریپ۔ ردی۔ الامتعة الشخصية: ذاتی سامان۔ متاع المرأة: شرمگاہ۔ أمتع: بزیادہ پرلطف، زیادہ راحت بخش، زیادہ مسرت بخش۔ تفریحی، فرحت افزا۔ اسهم تمتّع: شرکت کی اسناد، جسے جن سے ان کا حامل ووٹ کے حق کے بغیر خالص منافع میں شریک ہوجاتا ہے۔ ممتّع: خوشگوار۔ مزیدار۔ لطیف، پرلطف، راحت بخش، مسرت بخش، تسکین دہ، طمانیت بخش، ممتع: خوشگوار، مزیدار، لطیف، پرلطف، راحت بخش، مسرت بخش تسکین دہ، طمانیت بخش، دلچسپ، ممتّع ب: سے لطف اندوز۔ سے استفادہ کرنے والا، برقابض۔

متك: متكَ ـ متكاً الشيَ: کو کاٹنا۔ ماتكَ مماتكةً ہ في البيع: پر بیع کی تجارت میں غالب آنا۔ تمتّك الشرابَ: (شراب یا مشروب) گھونٹ گھونٹ کر کے پینا۔ المتك: مکھی کی ناک۔ (ن) لیمو۔ (ن) سوسن، مکھی کا گوہ۔ المتك و المتك: مکھی کی ناک۔ (ن) لیمو۔ سوسن۔

متل: متلَ ـ متلاً الشيَ: کو ہلانا، حرکت دینا۔

متن: ۱۔ متنَ ـ متوناً ہ بالسوط: کو زور سے کوڑے مارنا۔ ...... الشيَ: کو کھینچنا۔ ...... الرجلُ: سفر کرنا۔ ...... بفلان: کے ہمراہ دن بھر چلنا۔ ـ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـ متناً و أمتن فلاناً: کی پیٹھ پر مارنا۔ متُن ـ متانةً: سخت ہونا، مضبوط ہونا، قوی ہونا۔ صفت متن و متين۔ متّن الخيمةَ: خیمہ کو خوب کسنا۔ ـ الشيءَ: کو مضبوط کرنا۔ سخت کرنا۔ ـ الدلوَ: ڈول کو مضبوط باندھنا۔ الطعامَ: کھانے کو مصالحہ دار بنانا۔ ـ لمن سابقهٗ: آگے بڑھنے والے سے کہنا کہ تم فلاں مقام تک پہنچو میں تم سے آکر مل جاؤں گا۔ ماتنَ فلاناً: کو بہت دور کرنا۔ کو ٹالنا، الرجلَ: سے اس جیسی ٹال مٹول کرنا۔ ہ في الشعرِ: سے شعر گوئی میں مقابلہ کرنا اور اس پر غالب آنا۔ کہا جاتا ہے: بينهما مماتنةٌ: ان دونوں میں آپس میں ہر بات میں مقابلہ ہے۔ تماتنَ الشاعران في الشعر: شعر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ الماتن (فا): کتاب کا مصنف (شارح کے مقابلہ میں)۔ المتن (مص) جمع متان و متون: پیٹھ (مذکر و مؤنث) متنُ الشيءِ: چیز کا ظاہری حصہ۔ متن الارض: زمین کا بلند اور ہموار حصہ۔ متنُ الطريق: راستہ کا درمیان۔ متنُ الكتاب: کتاب کی اصل عبارت بغیر شرح و حاشیہ۔ متن اللغة: لغت کے اصول و قواعد اور مفردات۔ متنا الظهر: پیٹھ کے ہر دو رخ اور پہلو۔ کہا جاتا ہے: سار متنَ النهار: وہ تمام دن چلا۔ المتنة جمع متان و متون: سخت و بلند زمین۔ متنة الظهر: پیٹھ کا پہلو۔ المتان جمع متن: دو عمودوں کے درمیان کا فاصلہ۔ المتانة: شدت۔ طاقت۔ کہا جاتا ہے: في رأيه متانة: اس کی رائے میں شدت اور طاقت ہے۔ سنجیدگی ہے۔ المتين جمع متان: بہت سخت۔ طاقتور، مضبوط قوی: کہا جاتا ہے: حبل متين ورأي متين: مضبوط رسی اور رائے۔ ...... في اسماء ہ تعالى: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ بہت مضبوط جسے اپنے افعال میں کوئی مشقت اور تکلیف نہیں کرنی پڑتی۔ التمتين (مص) جمع تماتين و التمتان: خیمہ کی رسیاں۔ سيرٌ مماتن: دور کا سفر۔ کہا جاتا ہے۔ سار سيراً مماتناً: وہ بہت چلا۔

۲۔ متنَ ـ متوناً الكبشَ: مینڈھے کے بیضے رگوں سمیت نکالنا۔

۳۔ متنَ ـ متوناً الرجلُ: قسم کھانا۔

○ متُنَ ـ متانةً: مضبوط، قوی اور ٹھوس ہونا۔ متّنَ ہ: کو سخت اور مضبوط بنانا، کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، استوار کرنا، کی قلعہ بندی کرنا۔

متن جمع متون و متان: پیٹھ کا نصف یا پہلو۔ پیٹھ (خصوصاً جانوروں کی نیز مجازاً)، بڑی یا اصلی چیز، بڑا حصہ، دھڑ، متن (کسی دستاویز یا اخبار رسالہ وغیرہ کا، (حواشی اور شرحوں وغیرہ کے بغیر۔ کسی حدیث کا متن، اسناد کے بغیر۔ کتاب کا متن، تبصرہ کے بغیر۔ عموماً لغوی یا ادبی متن۔ سڑک کا درمیانی حصہ۔ پختہ فرش والی جگہ۔ سطح۔ عرشہ۔ جہاز۔ علی متن جہاز، کشتی یا طیارے میں۔ علی متن البحر: بذریعہ سمندر، جہازوں پر آنے والا مال (وغیرہ)۔ علی متن الهواء: بذریعہ فضا، ہوائی جہاز میں آنے والا (سامان وغیرہ) متن و متين: مضبوط، قوی، ٹھوس۔ متانة: پائداری، ثابت قدمی، طاقت۔ قوت۔ زور۔ مضبوطی۔ سنگینی۔ استواری۔ سختی۔ دشواری۔ خود ارادی۔ ارادہ۔ عزم۔ ریڑھ کی ہڈی، کردار کی مضبوطی۔ ہمت۔ برداشت۔ تحمل ضبط۔ ایجاز۔ اجمال۔ اسلوب کی بلاغت۔ تمتين: مضبوط کرنا، مضبوطی۔

مته: متهَ ـ متهاً الدلوَ: ڈول نکالنا۔

متِهَ ـ متهاً: بیہودہ اور فضول باتوں میں مشغول رہنا۔ تمتّہَ: دور ہونا۔ میں مبالغہ کرنا، بیہودہ باتوں میں مشغول ہونا۔ حیران ہونا بے وقوف ہونا۔ بے وجہ تعریف کا طالب ہونا، تکبر کرنا۔ تماتہَ عن الشيء: سے غافل ہونا۔ ...... القومُ: دور ہونا۔

متو: ۱۔ متا یمتوا متواً الشيءَ: کو کھینچنا۔ امتى إمتاءً: بہت رزق والا ہونا۔ عمر دراز ہونا۔ بری طرح چلنا۔ تمتّى: انگڑائی لینا۔

۲۔ متا یمتو متواً ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔

۳۔ متى: زمانہ کے بارے میں سوال کرنے کا اسم: کب۔ اسم شرط دو فعلوں کو مجزوم کرتا ہے: متى اضع العمامة تعرفوني (جب میں عمامہ اتاروں گا تو تم مجھے پہچان لوگے۔) جب، جس وقت۔

○ متى: جب، کس وقت؟ إلى متى و حتى متى: کب تک؟ کتنی دیر؟ کب، جب۔ جب بھی۔ متى ما: جب بھی۔

مت: ۱۔ متّ ـ متاً العظمُ: ہڈی کا گودا بہہ جانا۔ ـ

الزقُ و السقاءُ: مشک کا ٹپکنا۔ الرجُلُ: موٹاپے کی وجہ سے پسینہ بہنا۔ کہاجاتا ہے: جَاءَ یمتُّ: وہ آیا تو اس کی جلد پر تیل جیسی چکنائی نظر آتی تھی۔ ـــالحدیثَ: بات پھیلانا۔ ـــیَدَہُ: رومال سے ہاتھ پونچھنا۔ ـــ شاربَہُ: مونچھ کی چکنائی کو ہاتھ سے پونچھنا۔ ـــ الجرحَ: زخم صاف کرنا۔ نبتٌ مَتَاتٌ: نم پودا۔

۲۔ مَتمَتَ مَتمَتَةً و مِتماتاً زقُّ السمن و نحوہُ: گھی وغیرہ کے مشکیزہ کا رسنا۔ اسم المَتمات۔ ـــ الفتیلةَ: بتی کو تیل سے خوب تر کرنا۔ ـــ امرَھم: کے معاملہ کو خلط ملط کرنا۔ ـــفلاناً: کو پانی میں غوطہ دینا۔ ـــ الشیءَ: کو ہلانا۔

○ مَتَاث: کریم، سنگار کا سامان، غازہ، گلگونہ۔

متج: مَتَجَ ۔ مَتجاً الشیءَ: کو خلط ملط کرنا۔ ـــفلاناً: کو کھانا کھلانا۔ ـــ البئرَ: پانی نکال کر کنواں صاف کرنا۔ بالعطیة: عطیہ بخشنا۔

متد: مَتَدَ ۔ مَتداً بین الحجارة: پتھروں میں چھپ کر گھات میں بیٹھنا اور دیدبانی کا کام انجام دینا۔ الرجُلَ: کو دیدبان مقرر کرنا۔ الماتِد (فا): دیدبان

مثل: ۱۔ مَثَلَ ۔ مُثولاً فلاناً: کے مانند ہونا، کے جیسا ہونا۔ ـالتماثیلَ: مجسمے بنانا۔ فلاناً بفلان: کو سے تشبیہ دینا۔ ـمَثلاً و مُثلةً بالرجل: کو عبرت ناک سزا دینا ـــبالقتیل: مقتول کا مثلہ کرنا، کے ناک کان کاٹ دینا۔ مَثُلَ ۔ مَثَالةً: فضیلت والا ہونا۔ مَثَّلَ تَمثیلاً الشیءَ لفلان: کی ہو بہو تصویر بنانا۔ ـــالحدیثَ و بالحدیث: بات کو بیان کرنا ـــ المِثَالَ: کو نمونہ بنانا۔ ـــ التماثیلَ: مجسمے بنانا۔ ـــ بفلان: کو عبرت ناک سزا دینا ـــ بالقتیل: مقتول کا مثلہ کرنا، نک کان وغیرہ کاٹ ڈالنا۔ ـ تمثیلاً و تَمثالاً الشیءَ بالشیءِ: کو سے تشبیہ دینا، کو اس جیسا بنانا، کے مانند بنانا۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں: مَثَّلَ الروایةَ: ڈراما سٹیج پر لانا، ڈراما کرنا۔ ڈرامہ سٹیج پر پیش کرنا۔ ـدوراً فی الروایة: (ڈرامامیں) کا کردار ادا کرنا، رول ادا کرنا، کھیل میں بڑا اداکار یا اداکارہ ہونا۔ ......بلادَہُ فی بلاد اخری: اپنے ملک کی کسی دوسرے ملک میں نمائندگی کرنا ـــــ شخصاً فی حفلة او غیرھا: کسی تقریب وغیرہ میں کسی شخص کی نمائندگی کرنا، کا قائم ہونا، کی طرف سے کام کرنا۔ ان سب میں اسم تمثیل ہے، جو مصدر پر مبنی ہے۔ مَاثَلَ مُماثلةً ہُ: کے مشابہ ہونا۔ ـــہُ بفلان: کو سے تشبیہ دینا۔ اَمْثَلَ ہُ فلاناً و بہ: کو اس کے مانند بنانا۔ ـــ الحاکمُ فلاناً: کو حاکم کا قصاص میں قتل کرنا۔ ـــ الحاکمَ فلاناً من فلان: حاکم کا کسی سے قصاص لینا۔ تَمَثَّلَ الحدیثَ و بالحدیث: کو بیان کرنا۔ ـــ الشیءَ: کی مثال کا تصور کرنا ......لہ الشیءُ: کا تصور ہونا، کو نظر آنا، کو لگنا، معلوم ہونا۔ ـــبالشیءِ: کو محاورے کے طور پر استعمال کرنا۔ کی ضربِ المَثَل بیان کرنا۔ کہاجاتا ہے: ھذا البیت مَثَل یُتَمَثَّل بہ: یہ مصرعہ ایک مثال ہے جس کو محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ......منہ: سے بدلہ لینا۔ ـمثالاً: کو نمونہ بنانا ـــبہ: کے مشابہ ہونا۔ آج کل کہاجاتا ہے: تَمَثَّلَ الادبَ: اس نے آپ کو ادب میں گم کرلیا ہے۔ وہ ادب میں گم ہو کر رہ گیا ہے۔ ـــالغذاءُ: غذا کا اپنی صورت کھو دینا اور کھائی ہوئی غذا کی شکل اختیار کرنا۔ تَمَاثَلَ الشیئانِ: باہم مشابہ ہونا ـــالعلیل من عِلَّتِہِ: بیمار کا صحت یابی کے قریب ہونا۔ اِمْتَثَلَ المَثَلَ و بالمثل: مثال بیان کرنا۔ ـــ الشیءَ: کسی شئے کے نمونہ پر بنانا۔ ـــ الطریقةَ: طریقہ کی پیروی کرنا۔ ـمن القاتل: قاتل سے قصاص لینا۔ المِثل جمع اَمْثَال: شبہ، نظیر، مشابہت، مماثل (مذکر مونث، تثنیہ اور جمع کے لئے) کہاجاتا ہے: ھو و ھی و ھما و ھم و ھنّ مِثْلُہُ: وہ (مذکر) وہ (مونث) وہ دو مذکر و مونث اور وہ (جمع مذکر) اور وہ (جمع مونث) اس کی مانند ہے اور ہیں)۔ ھم امثالھم (وہ ان کے مانند ہیں) بھی کہاجاتا ہے۔ فلانٌ مُسْتَرادٌ لِمِثْلِہِ: اس کی مثل طلب کی جاتی ہے اور اس کی حرص کی جاتی ہے۔ اسی طرح: ھی مُستَرادة لمثلھا۔ المَثَل جمع اَمثال: مشابہ۔ نظیر۔ بات۔ کہاوت۔ عبرت۔ صفت۔ دلیل۔ حجت۔ المَثُلَة: عقوبت۔ عبرت ناک سزا، جیسے ناک کان کاٹنا۔ آفت۔ المَثُلَة جمع مَثُلات: گزری ہوئی صدیوں میں نازل ہونے والا عذاب جس سے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ عقوبت۔ عبرت ناک سزا۔ المِثَال جمع اَمْثِلَة و مُثُل و مُثْل ـ مقدار۔ شبہ۔ چیز۔ قصاص۔ المَثَالَة: فضیلت۔ اچھی حالت۔ المِثالی: مثالیت پسند۔ اصول پرست۔ (idea list) الشیءُ المثالی (چیز) مثالی، معیاری، المِثالیَّة: اصول پرستی۔ مثالیت، تصوریت۔ (idealism)۔ المُمَثِّل جمع مُمَثِّل: شبیہ۔ نظیر۔ عمدہ۔ الاَمْثَل جمع اَمَاثِل و مُثُل مونث مُثلی: افضل بہتر کہاجاتا ہے: المریضُ الیوم اَمْثَلُ: مریض کی حالت آج بہتر ہے۔ اَمَاثِلُ القوم: قوم کے برگزیدہ۔ الطریقةُ المُثلی: حق کے مشابہ راستہ۔ الاُمْثولة جمع اَمَاثِیل و اُمْثولات: اشعار کے وہ مصرعے جن کو محاورے کے طور پر بیان کیا جائے۔ التِمثال جمع تَماثِیل: تصویر، مجسمہ۔ التمثل و التمثیل فی الغذاء: غذا کا اپنی صورت کھو دینا اور کھائی ہوئی چیز کی صورت اختیار کرنا۔

۲۔ مَثَلَ ۔ مُثولاً القمرُ: چاند کا ظاہر ہونا، غائب ہونا (ضد)۔ ......الرجلُ: اپنی جگہ سے ہٹنا۔ زمین سے چمٹنا۔ ـــومَثَلَ ۔ مُثولاً بین یدی فلان: کے سامنے کھڑا ہونا۔ تَمَثَّلَ بین یدیہ: کے سامنے کھڑا ہونا۔ اِمْتَثَلَ الامرَ: حکم بجالانا۔ المَاثِل (فا) جمع مُثَّل من الرسوم: مٹا ہوا نشان۔ کہاجاتا ہے: مِثْل مَاثِل: مشہور مثال۔ الماثِلة: ماثل کا مونث: لیمپ، چراغدان۔

۳۔ المِثَال جمع اَمْثِلَة و مُثُل و مُثْل: بستر

○ مَثَلَ ۔ مُثولاً ہ: کے مشابہ ہونا، کسی جیسا ہونا، یا نظر آنا، کی مشابہت رکھنا، کی نقل کرنا، تقلید کرنا، کی نقل اتارنا، کے نقش قدم پر چلنا ...... ہ ب: کو سے تشبیہ دینا، ـــ ہ: کا نمونہ ہونا، کا مطلب ہونا، کے معنی ہونا، کا مظہر ہونا، کی علامت ہونا، پر مشتمل ہونا۔ ـــبین یدیہ: کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا۔ کے روبرو پیش ہونا۔ ـــ اپنے آپ کو آنکھ کے سامنے پیش کرنا، نظر آنا، دکھائی دینا، کھڑا ہونا، آگے آنا، داخل ہونا (خصوصاً اداکار کا سٹیج پر آنا)، مثل بین یدی المَلِك: بادشاہ کی خدمت میں شرفِ باریابی پانا، بادشاہ کا کسی کو شرف باریابی بخشنا ۔ مَثْلاً ب: کو زخمی کرنا، اس کے جسم کا کوئی حصہ ناکارہ کرنا، کے ہاتھ پیر کاٹنا۔ ۔ مَثْلاً و مُثْلَةً ب: کسی کو دوسروں کے لئے تازیانہ عبرت بنانا۔ مَثُلَ ۔ مُثولاً بین یدیہ: کے سامنے کھڑا ہونا، پیش ہونا۔ مَثَّلَ ہ ب کو کے مانند بنانا، کو کے مشابہ بنانا، کو کسی جیسا بنانا، کو کے مماثل بنانا: ذہن نشین کرنا۔ ـــب ل/ ہ علی: کو مثال کے طور پر پیش کرنا۔ ......ب ل: کی مثال دے کر کسی کو سمجھانا۔ ......ب: کو کسی کی ہو بہو نقل (تشبیہ) کے طور پر استعمال کرنا ...... ہ ب: کو سے تشبیہ دینا۔ ـــب: کسخت سزا دینا، سختی کے ساتھ پیش آنا، کو زخمی کر کے جسم کا کوئی حصہ ناکارہ بنانا، کے ہاتھ پیر کاٹنا۔ ...... ہ/ ہ: کو دکھانا، کو تصویر سے یا وضاحت سے پیش کرنا، کی تصویر کھینچنا، کا تصور کرنا، کی لفظوں میں تصویر کھینچنا، بیان کرنا، کو نقل کرنا ...... ہ: کی رنگین تصویر کھینچنا، کا نیم مجسمہ بنانا، کا مجسمہ بنانا۔ ...... ہ/ ہ: کی نمائندگی کرنا۔ سٹیج یا سکرین پر اداکاری کرنا، بطور اداکار پیش ہونا ...... دوراً: پارٹ یا رول ادا کرنا۔ کسی رول میں بطور بڑا اداکار یا اداکارہ کام کرنا۔

ہ کھیل کو سٹیج کرنا، تمثیل پیش کرنا، مَثَّل به أشنعَ تِمثیل: کوئی دہشتناک مثال بنا دینا، کو سخت ترین ظالمانہ سزا دینا۔ مَاثَلَ ہ/ ہ: کے مشابہ ہونا، کے مانند ہونا، کے مانند دکھائی دینا، کی مشابہت رکھنا، کے مماثل ہونا، کسی شخص یا چیز جیسا ہونا، ہ ب کو سے تشبیہ دینا۔ تَمَثَّلَ ب: کسی کی مانند ہونا، کا ہم شکل ہونا، کا اتباع کرنا، کی شکل پر ہونا، کی شکل اختیار کرنا — ہ کو جذب کرنا، سمونا۔ — ب کی طرح کرنا، کی نقل کرنا۔ — ب کا تصور کرنا — ہ کا خیال آنا۔ — ب: کو بطور مثال پیش کرنا یا کو بطور تشبیہ استعمال کرنا۔ — فی: میں دکھائی دینا، پیش ہونا۔ ہ: کو مجسم کرنا، کو عملی شکل دینا یا عملی شکل میں لانا، کو شخص تصور کرنا، کو مجازی رنگ میں پیش کرنا کو نمونہ بنانا۔ بین یدیه: کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا، کے روبرو پیش ہونا۔ تَمَاثَلَ: باہم مشابہ ہونا، ہم شکل ہونا، مشابہ ہونا۔ من: سے صحت یاب ہونا۔ تماثل للشفاء یا الی الشفاء: روبصحت ہونا۔ اِمْتَثَلَ ہ: کو بطور نمونہ یا مثال لینا، کی نقل کرنا، کی اتباع کرنا۔ ل: کی اطاعت اختیار کرنا، کی فرمانبرداری کرنا، کا محکوم ہونا، کے زیرِ نگیں ہونا۔ — ہ: حکم ماننا، حکم کی تعمیل کرنا۔ مِثْل جمع أمْثال: ایک جیسی، مشابہ، مماثل (چیز) ایسی ہی قسم کی (چیز) مشابہت، مماثلت تشبیہ۔ ہو بہو نقل، شکل، بھیس، تصویر، عکس، مساوی، ہم معنی، کے مانند، جیسا، جیسی، مِثْلَ و کَمِثْلِ: کے مانند، کے مشابہ، کے مماثل۔ هم مِثْلُه: وہ اس کے مانند ہیں۔ وہ اس کی قسم کے ہیں۔ بالمثل: اسی طرح اسی انداز سے یکساں، برابر، نیز، بھی۔ مِثْلَ ما: کے علاوہ، مزید برآں، بالکل اسی طرح۔ بمثل ما: بالکل اسی انداز سے، اسی طرح اجرُ المثل: کافی ادائیگی یا تنخواہ۔ عَامَلَهُ بالمثل: کو ویسا ہی بدلہ دینا، سے ویسا ہی سلوک کرنا۔ مبدأ المعاملة بالمثل عمل ردعمل کا اصول، رعایت باہمی اصول۔

مقابلة المثل بالمثل: انتقامی کارروائی، انتقام۔

أمْثَالُهُ: اس جیسے لوگ، اس کی قسم کے لوگ۔

امثال ابی بکر: حضرت ابو بکر جیسے لوگ۔ الی ثلاثة امثاله: تین گنا، مِثْلما: جیسا۔ مِثْلِی: جس کی جگہ دوسرا لے سکے، جسے ہٹایا جا سکے۔ قابل تبادلہ۔

مَثَل جمع امثال: مشابہت، تشبیہ استعارہ۔ مثال، تمثیل، کہاوت، ضرب المثل، مقولہ، مثال، سبق، مماثل حالت، نصب العین، نمونہ، مَثَلاً: مثال کے طور پر، مثله کمثل: وہ کے مشابہ ہے، کے مانند ہے۔ مَثَل أسمیٰ یا مثل اعلیٰ: نصب العین، مطمح نظر، آئیڈیل۔

الامثال السائرة: کہاوتیں۔ علی رأی المَثَل: کہاوت کے مطابق، جیسا کہ کہاوت ہے۔ مِثَال جمع اَمْثِلَة و مُثُل: یکساں چیز، ایک جیسی، مشابہ، مماثل (چیز)۔ استعارہ تشبیہ، تمثیل، مثال، کہاوت، مقولہ، ضرب المثل، مثالیہ، مجازیہ (allegorry) مثال، نمونہ، معیار، عبرتناک سزا، ماڈل، تصویر (image) علی مِثَال: کے انداز میں، کے اسلوب پر، کے نمونہ پر۔ مِثَال اعلیٰ جمع مُثُل علیا: آئیڈیل نصب العین۔ مطمح نظر۔ مُثُل عالیه: ideals۔ مِثَالی: تمثیلی، مثالی، مجازی، مثالی امتیازی نمائندہ نمونہ، سبق آموز، عبرت ناک، عبرت انگیز۔

مثالی النَزْعَة: مثال پسند، مشابہت پسند۔

مَثَّال: جمع مثالون: سنگ تراش، مجسمہ ساز۔ مَثَالَة: مثالیت، سبق آموزی، کمال، برتری جمع مثالات و مثائِل: سبق، کام، تفویض۔ مَثِيل جمع مُثُل: مانند، ایک جیسا، مماثل، مشابہ، یکساں، ہمسر، برابر کا، ہم مرتبہ، مدمقابل۔ مثيلة مونث مثيلتها: اس کی قسم کا، اس کی قسم کی، لامثیل له، لیس له مَثِیل اور لم یسبق له مثیل: بے نظیر، بے مثال، یکتا، یگانہ۔ مُثُول: سیدھا کھڑا ہونا، پیش پیش کشی، باریابی۔ اُمْثُولَه جمع اُمثولات و اماثیل: مثال، سخت ترین یا شدید ترین مثال، تنبیہ، سبق، کہاوت کام۔ اَمْثَل مونث مُثْلی جمع أمَاثِل: کمال کے قریب تر، نصب العین کے قریب تر ہونے والا، مثالی، سبق آموز، کامل۔ السبیل المُثلی لِ: کا مثالی راستہ۔ تِمثال جمع تماثیل: مجسمہ، بت، سوار کا مجسمہ، تمثال نصفی: سر کا مجسمہ، نیم مجسمہ (bust)۔ تمثیل جمع تماثیل: مثالوں کا اقتباس، توضیح، نقل، مثال، تشبیہ، صورت گری، تصویر سازی، شبیہ سازی، تصویر کشی، الفاظ میں تصویر کشی، مصوری، بیان، نمائندگی، سفارتی نمائندگی، ڈرامائی نمائندگی، ایکٹنگ، ایکٹر کا کوئی رول ادا کرنا، انجام دہی، بجا آوری، عمل، کرتب، شو، ڈرامائی آرٹ، عبرت ناک سزا، تمثیل تجاری: تجارتی ایجنسی، تمثیل فلانِ: (فلمی اشتہاروں میں) ممتاز اداکار اور اداکارائیں فلاں فلاں۔ بدل التمثیل: نمائندگی کا الاؤنس، پیشہ ورانہ اخراجات کا الاؤنس۔ خرچہ الاؤنس۔ دار التمثیل: تھیٹر، منڈوا، غنائیہ خانہ (opera house) فن التمثیل: ڈرامائی آرٹ، تھیٹر، مجسمہ سازی، سنگتراشی، نقاشی، بت تراشی، بت گری، علی سبیل التمثیل: تشریح یا توضیح کے لئے

تَمثِیلی: تھیٹر یا سٹیج سے متعلق، ڈرامائی انداز کا اداکاری کا، اداکاروں اور اداکاراؤں کا، اداکاری سے متعلق، اداکار سے متعلق، دکھاوے کا، ظاہر داری کا، نانگی، تمثیلی، سوانگ کے متعلق تماشہ گاہ میں دکھائے جانے کے قابل اچانک۔ ملعب تمثیلی: تھیٹر، منڈوا، تمثیلیه غنائية: اوپرا Opera۔ مماثلة: مشابہت، مماثلت، یکسانیت، تشبیہ، ملتی جلتی شکل و صورت، مطابقت، موافقت، تناسب، قطعی برابری، مساوات، تمثل: رچ بس جانا، جذب ہونا، تماثل: برابر کا ہونا، ٹکر کا ہونا، مساوی ہونا، ہم خیالی، ہم آہنگی، اتفاق رائے کا مطابقت، موافقت، لگاؤ، مشابہت، مماثلت، یکسانیت، صحت یابی، افاقہ۔ امتثال: حکم کی تعمیل، اتفاق رائے فرمانبرداری اطاعت حکم کی بجا آوری۔ مَاثِل: کھڑا رکھا ہوا، نمائش کیا ہوا، نمائش میں، ظہور میں آنے والا، سامنے آنے والا، اچانک آپڑنے والا، خلاف توقع پڑنے والا، نظر آنے والا، معلوم ہونے والا، لگنے والا، ظاہر ہونے والا، خود پیش ہونے والا، ماثل امام عينيه: کی آنکھوں کے سامنے حاضر، ماثل للعیان: آنکھوں کے سامنے، مرئی، واضح، جاذب توجہ، ظاہر، ماثل فی حضرته: کے سامنے، کی موجودگی میں۔ ماثِلة: لمپ، شیشے کا جھاڑ۔ مُمَثِّل: نمائندگی کرنے والا، نمائندہ، نمائندگی سے متعلق جمع مُمَثِّلون: نمائندہ، سفارتی نمائندہ، ڈپٹی، ایجنٹ، موسیقار، مطرب، کھلاڑی، سٹیج کا کھلاڑی، ایکٹر، اداکار، مزاحیہ اداکار comedian۔ ممثل تجاری: تجارتی ایجنٹ۔

مُمَثِّلة جمع مُمَثِّلات: اداکارہ (actress)۔

مُمَثِّلِيَّة: نمائندگی۔ ایجنسی۔ مُمَثِّلِيَّة سياسية: سفارتی نمائندگی۔ مُمَثَّل: بیان کردہ، نقل لفظوں میں تصویر کھینچا ہوا، تصویر کھینچا ہوا، شبیہ بنایا ہوا، نمائندگی کیا ہوا، ذہن نشین کیا ہوا۔ مماثل: مشابہ، مانند، کی طرح کا، ملتا جلتا، مثل، مطابق، ہم شکل۔ مُتَمَاثِل: باہم مشابہ، مانند، ملتا جلتا، ایک جیسی قسم کا ہم نسبت، ہم مقدار، ہم وزن، یکساں، مساوی، ایک دوسرے کے مطابق، ویسا ہی، اسی شکل کا، ہم شکل، ہو بہو ملتا جلتا، رچ بس جانے والا، ذہن نشین ہونے والا۔ مُمْتَثِل: فرمانبردار، حکم کی تعمیل کرنے والا۔ فرمانبردار۔ مطیع اطاعت شعار، اطاعت پذیر۔ انقیاد پذیر۔

مثن: مَثَنَ ۔ مَثْنا الرجل: کے مثانہ پر مارنا۔

مَثِنَ ۔ مَثَناً: مثانہ میں پیشاب نہ روک سکنا۔ صفت اَمْثَن و مَثِن مونث مثناء و مَثِنة: مُثِنَ مَثْناً: مثانہ کی

بیماری والا ہونا۔ صفت مَمْثُون و مَثِین ۔ المثانة جمع مَثَانات: پیشاب کے رہنے کی جگہ (انسان اور حیوان میں)۔ بچہ دانی۔

مج: ا۔ مَجّ ۔ مَجًّا الشرابَ او الشیء و بہ من فمه: منہ سے پانی یا کوئی چیز پھینکنا۔ استعارہ کے طور پر کہتے ہیں: ھذا کلام تمجه الاسماع: یہ ایسا مکروہ کلام ہے کہ کان اس کو پھینکتے ہیں اور سننا نہیں چاہتے۔ مَجّجَ العنبُ: انگور کا میٹھا ہونا۔ خوش ذائقہ ہونا۔ أَمَجَّ العودُ: لکڑی کا تر ہونا۔ اِنْمَجَّ: ٹپکنا۔ الماجّ (فا) جمع مُجَّاج و مَاجُّون: جس کی رال بڑھاپے کی وجہ سے ٹپکتی ہو۔ المُجّ: چھتر پر شہد کے قطرے۔ المَجّة: مَجّ کا اسم مرّة۔ کہا جاتا ہے: مابقی فی الاناء الا مَجّة: برتن میں صرف اتنا رہ گیا ہے جو ایک بار میں منہ سے پھینکا جاتا ہے، یعنی کلی بھر۔ المُجُج (ح): شہد کی مکھیاں، مست لوگ۔ المَجَج: باچھوں کا ڈھیلا پن۔ انگوروں کا پکنا۔ المُجَاج: تھوک۔ مُجَاج النحل: شہد۔ مُجَاج العنب: شراب۔ مُجَاج المزن: بارش۔ کہا جاتا ہے: خبزَ مُجَاجًا: اس نے نمکی کی روٹی پکائی۔ المُجَاجَة: تھوک۔ مُجَاجَةُ الشیء: نچوڑ۔ المَجَّاج: بہت کلی کرنے والا۔ کاتب۔

۲۔ أَمَجَّ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنے لگنا۔ ـــ الرجلُ: کسی ملک میں پھرنا۔

۳۔ المَجّ: ماش کے دانے۔ المُجَاج: پھلی۔ شاخ۔ ماش کے دانے۔

۴۔ مَجْمَجَ الکتابَ: تحریر کو صاف نہ لکھنا۔ ـــ فی حدیثه: بات صاف نہ کرنا۔ المُجْمَاج: ڈھیلا۔ بہت یا موٹے گوشت والا۔

○ مَجَّ ہ: کو تھوکنا، اگلنا، باہر نکالنا۔ کو مسترد کرنا، کو دل سے نکالنا، کو (بےکار سمجھ کر) پھینک دینا۔ مَجَّجَ: پک جانا، پکنا، شیریں ہونا۔ مُجَاج و مُجَاجَة: تھوک، لعاب دہن، رس۔

مجح: مَجَحَ ۔ مَجْحًا و مَجِحَ ۔ مَجَحًا و تَمَجَّحَ الرجلُ: تکبر کرنا، فخر کرنا ـــ الدلوَ فی البئر: ڈول کنویں میں ہلانا۔ المَجّاح: تکبر کرنے والا۔ متکبر۔

مجد: ا۔ مَجَدَ ۔ مَجْدًا: بزرگی والا ہونا۔ ـــ فلانًا: بزرگی میں غالب ہونا۔ مَجُدَ ۔ مَجَادَةً: بزرگی والا ہونا۔ صفت ماجد و مَجید جمع امجاد۔ مَجَّدَ فلانًا: کی تعظیم کرنا، کی تعریف کرنا، کی بزرگی کی طرف نسبت کرنا۔ مَاجَدَ مِجَادًا و مُمَاجَدَةً ہ: کا بزرگی میں مقابلہ کرنا۔ اَمْجَدَ فلانًا: کی تعظیم کرنا، کی بزرگی کی طرف نسبت کرنا ـــ فلانٌ وُلْدَهُ و لِوُلْدِهِ: کے لئے بہترین ماؤں کا انتخاب کرنا۔ کہا جاتا ہے: ھولاء قومٌ اَمْجَدَھُمْ ابوھم: ان لوگوں کے والد نے ان کے لئے بہترین ماؤں کا انتخاب کیا تھا۔ تَمَجَّدَ: بزرگ ہونا۔ تَمَاجَدَ: باہم فخر کرنا۔ اپنی بزرگی بیان کرنا، کہا جاتا ہے تماجدوا فیما بینھم: انہوں نے آپس میں فخر کیا اور اپنی بزرگی بیان کی۔ اِسْتَمْجَدَ: بزرگی کا طالب ہونا، اچھے صفات میں مشہور ہونا۔ المَجْد (مص) جمع اَمْجَاد: عزت، بلندی۔ بلند زمین۔ الماجد (فا) مونث ماجدة جمع مَوَاجِد: بزرگی والا، خوش خلق۔ الامْجَد جمع اَمَاجِد: اسم تفضیل: زیادہ بزرگ۔ المَجِیدِی: آل عثمان کے سلاطین میں سلطان عبدالمجید کی طرف منسوب چاندی کا سکہ جس کی قیمت ۲۰ قرش تھی۔

۲۔ مَجَدَ ۔ مَجْدًا الراعی الإبلَ: چرواہے کا اونٹوں کو چارے سے سیر کرنا۔ مَجْدًا و مُجُودًا ت الإبلُ: اونٹوں کا بہت چارے والی زمین میں سیر ہو کر چرنا صفت ماجدة جمع مَوَاجِد و مُجَّد و مُجُد۔ مَجَّدَ الراعی الإبلَ: چرواہے کا اونٹوں کو چارے سے سیر کرنا۔ ـــ العطاءَ: بہت بخشش عطا کرنا۔ ـــ لفلان من کذا: کو سے زیادہ کرنا۔ اَمْجَدَ العطاءَ: بہت بخشش عطا کرنا ...... لفلان من کذا: کو سے زیادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ اَمْجَدَهُ ذَمًّا و سَبًّا: کی بہت عیب گوئی کرنا اور اس کو بہت گالیاں دینا۔ نزلوا ابھم فامجدوھم قِرًى: وہ ان کے پاس بہت کچھ لے کر آئے۔ ...... الراعیُ الإبلَ: چرواہے کا اونٹوں کو چارے سے سیر کرنا۔ ...... ت الإبلُ: اونٹوں کا بہت چارے والی زمین میں سیر ہونا۔ شیءٌ ماجدٌ مونث ماجدة جمع مَوَاجد: بہت چیز۔

○ مَجَدَ ۔ مَجْدًا و مَجُدَ ۔ مَجَادَةً: پرشکوہ ہونا، شاندار ہونا، مشہور ہونا، نامور ہونا، سرفراز ہونا۔ مَجَّدَ و اَمْجَدَ: تعریف کرنا، تعریف کے پل باندھنا، حمد و ثنا کرنا، ستائش کرنا، حمد کرنا، شہرت کرنا۔ تَمَجَّدَ: تعریف کیا جانا، ستائش کیا جانا، حمد کیا جانا، حمد و ثنا کیا جانا، ڈینگ مارنا، شیخی بگھارنا، مایہ فخر ہونا، اترانا۔ مَجْد جمع امجاد: ناموری، مایہ ناز، بزرگی، جلال، شان، جلوہ، تجلی، شان شوکت، شان و شکوہ، کر و فر، بڑائی، عظمت، شرافت، عالی ظرفی، قدر و منزلت، نیک نامی، شہرت، امتیاز۔ مَجْدِی: لائق ستائش، قابل تعریف، ستودہ، پرشکوہ۔ مجید: پرشکوہ، مشہور نامور، جلیل القدر، نمایاں شاندار، معروف، محمود، قابل تعریف، لائق ستائش، عمدہ، بہت خوب، عالی شان، عالی ظرف۔ الکتاب المجید: قرآن۔ امجاد (مجید کی جمع)، ممتاز لوگ، عالی مرتبہ لوگ، عظمت و رفعت کے مالک۔ اَمْجَد جمع اَمَاجِد: زیادہ پرشکوہ، زیادہ روشن، زیادہ تاب دار، زیادہ مشہور، زیادہ معروف، زیادہ نامور، زیادہ عالی مرتبہ، زیادہ گرامی قدر، زیادہ ممتاز، زیادہ نمایاں۔ تمجید: تعریف، ستائش، حمد و ثنا، تکبیر۔ تجید، تنویر، سربلندی، سرفرازی، معبود بنالینا، حد سے زیادہ احترام۔

مجر: ا۔ مَجَرَ ۔ مَجْرًا: پیاسا ہونا۔ مَجِرَ ۔ مَجَرًا من الماء و نحوه: کے پیٹ کا پانی سے بھرنا مگر سیراب نہ ہونا۔ ـــ و اَمْجَرَت الشاةُ: پیٹ میں بچہ بڑا ہونے سے بکری کا بوجھل ہونا اور اٹھ نہ سکنا۔ المَجْر: بڑی فوج۔ بہت ہر چیز کا۔ المَجَر: حاملہ بکری کے پیٹ میں بچہ کا بڑا ہونا۔ شاةٌ مَجِرَةٌ: حمل بڑا ہونے سے کمزور بکری۔ الأَمْجَر: بڑے پیٹ اور دبلے جسم والا۔ المُمْجِر من النساء جمع مَمَاجِر: جڑواں بچے جننے والی عورت۔

۲۔ مَاجَرَ مِجَارًا و مُمَاجَرَةً و اَمْجَرَ فلانًا فی البیع: سے زیادہ لینا، سود لینا۔ المَجْر: حاملہ اونٹنی اور بکری کے پیٹ کا بچہ۔ حاملہ جانور کے پیٹ کے بچہ کا خریدا جانا۔ زیادتی، سود، جوا۔

۳۔ المَجْر: عقل۔ المَجَر: ملک ہنگری۔ ملک ہنگری کے باشندے۔ اس ملک کے سونے کے سکوں کی ایک قسم۔ المِجَار: اونٹ کے پاؤں باندھنے کی رسی۔

○ مَجِرَ ۔ مَجَرًا: پیاسا ہونا، پیاس لگنا، پیاس محسوس کرنا۔ مَجْر: بہت بڑا لشکر۔ مَاجُور جمع مَوَاجِیر: پنالی۔ ناند، کونڈا۔ مَجَرِی: ملک ہنگری کا۔ مَجْرِیط: میڈرڈ (Madrid)۔

مجس: مَجَّسَ ہ: کو مجوسی بنانا۔ تَمَجَّسَ: مجوسی ہونا۔ المَجُوس: سورج یا آگ کی پرستش کرنے والے۔ واحد مَجُوسی: بھی مجوسی، جادوگر، دانا اور فلسفی کو بھی کہتے ہیں۔ (یہ لفظ میخ کُوش سے جو فارسی لفظ ہے مُعَرَّب ہے۔ اس کے معنی چھوٹے کانوں والا ہے۔ المَجُوسِیَّة: مجوسی کا مونث، مجوسیوں کا مذہب

مجع: ا۔ مَجَعَ ۔ مَجْعًا و مَجْعَةً و تَمَجَّعَ و اِمْتَجَعَ: کھجوریں کھا کر اوپر سے دودھ پینا۔ مَجَّعَ تمجیعًا ضیفَهُ: اپنے مہمان کو کھجور اور دودھ کا بنا ہوا کھانا کھلانا۔ اَمْجَعَ الفصیلَ: اونٹ کے بچے کو برتن سے دودھ پلانا۔ المُجَاعَة: کھجور اور دودھ سے بنے ہوئے کھانے کا بچا کھچا۔ المجیع: کھجور اور

دودھ سے بنا ہوا کھانا۔

۲۔ مَجع – و مَجُع ۔ مَجَاعَةً: باہم مخول کرنا۔ بے شرم و بے حیا ہونا۔ مَاجَع مُمَاجَعَةً: باہم مخول کرنا۔ ایک دوسرے سے مخول کرنا۔ تَمَاجعا: باہم مخول کرنا۔ المِجْع: مخول کرنے والا و المَجْع: جاہل، احمق۔ المُجْعَة: جاہل، احمق۔۔۔۔۔ و المِجْعَة: جاہل (عورت)۔ المَجعَة و المِجَعة و المُجَعة و المَاجعَة: بے حیا مخولی عورت۔ المَجّاع و المَجَّاعَة و المُجَّاعَة: بے حیا مخولی مرد۔

مجل: مَجَلَ ۔ مَجْلاً و مُجُولاً و مَجِلَ ۔ مَجَلاً ت يَدُهُ: ہاتھ میں کام کرنے کی وجہ سے آبلہ پڑنا۔ عوام بقبقت کہتے ہیں۔ اُمجِلَت يَدُهُ: کے ہاتھ میں آبلہ پڑنا۔ العَمَلُ يَدَهُ: کے ہاتھ میں آبلہ ڈالنا۔ مَجَل: امتلأ فيها دماً: نے سرکا پیپ اور خون سے بھر جانا۔ الماجل (فا): پہاڑ یا وادی کے دامن کا پانی۔ المَجْل (مص): آبلہ۔ المَجْلة جمع مِجال و مجل (طب): آبلہ عوام اسے بقُوقَة کہتے ہیں۔

(ج) مَجْلة جمع مِجَال اسم جمع مَجْل: چھالہ۔ آبلہ۔ مَاجِل جمع مَوَاجِل: حوض، ٹینکی۔ مُمَجْمَج: مبہم۔ غیر واضح۔ جلدی جلدی گھسیٹا ہوا، جو پڑھا نہ جاسکے۔

مجن: ۱۔ مَجَنَ ۔ مُجُونًا الشيءُ: موٹا اور سخت ہونا۔ ۔ مُجُونًا و مُجْنًا و مَجَانَةً: مخول کرنا اور بے حیا ہونا صفت مَاجِن جمع مُجّان۔ تَمَجَّنَ: بتکلف مخول کرنا۔ مخول کرنے والے کا سا عمل کرنا۔ کہا جاتا ہے: تَمَجَّن في كلامه: اس نے باتوں میں مخول کیا اور بے حیائی کی۔ تَمَاجَنَ: آپس میں مزاح کرنا۔ المِجّان: بڑا مخولی۔

۲۔ المَجّان: بہت کافی اور کشادہ۔ کہا جاتا ہے۔ ماءٌ مَجّانٌ: بہت پانی۔ مفت۔ عطیہ بلا قیمت۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَهُ او فعله مَجّانًا: اس نے وہ چیز مفت لی یا وہ کام مفت کیا۔ هذا الشيءُ لك مَجّانٌ: یہ چیز تمہاری ہے اور مفت ہے۔ طَرِيقٌ مُمَجَّنٌ: لمبا راستہ۔

(ج) مَجَنَ ۔ مَجْنًا و مُجُونًا و مَجَانَةً: مذاق کرنا، دل لگی کرنا، ہنسی اڑانا، چھیڑنا، فقرہ کسنا، طعن کرنا، مضحکہ اڑانا، چڑانا، چوٹ کرنا۔ مَاجَنَه: کی ہنسی اڑانا، پر طنز کرنا، پر چوٹ کرنا، کا مضحکہ اڑانا، کو چڑانا، پر آوازے کسنا، کو طعنے دینا، لعنت ملامت کرنا، سے مذاق کرنا، کی ہنسی اڑانا، پر استہزاء کرنا، کو ہیچ سمجھنا، کو چھیڑنا، سے غیر محتاط مذاق کرنا۔ تَمَجَّنَ: گستاخانہ مذاق کرنا۔ تَمَاجَنَ: ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر ہنسنا، ایک دوسری کی ہنسی اڑانا۔ مَجَانَة: بھانڈپن، مسخراپن، جمع مجانات، شوخی، شرارت، عملی مذاق، خرمستی، غیر مہذب حرکت ہنسی، ٹھٹھا، مضحکہ خیز حرکت۔ مَجّان: گستاخ، ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا، جسے روکا نہ گیا ہوا، اٹھکیلیاں کرنے والا۔ آوارہ، مسخرا، بھانڈ، مفت۔ مَجّانا یا بالمجّان: مفت، بلاقیمت۔ مَجّانی: مفت، بلاقیمت۔ مَجّانِيَة: بلا معاوضہ کام کرنا۔ بے غرضانہ خدمت، فیس سے استثناء۔ فیس کی معافی۔ مُجُون: بھانڈپن، مسخراپن، بے شرمی، بے حیائی، گستاخی، ڈھٹائی، بے تمیزی۔ مُجُوني: بے حیا طنز کرنے والا، ترش رو۔ مَاجِن جمع مُجّان: گستاخ، ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا، شوخ، بے ادب، بدتہذیب، بھانڈ، مسخرا۔ مَاجِن جمع مَوَاجِن: حوض، ٹینکی۔ مَجنيز يوم: میگنیشم: ایک معدنی عنصر، ایک سفید قسم کی مٹی۔

مح: ۱۔ مَحَّ ۔ مَحًّا و مَحَحًا و مُحُوحًا و مُحُوحَةً و اَمَحَّ الثوبُ: کپڑے کا پرانا ہونا۔ ۔۔۔ الاثرُ: نشان کا مٹنا۔ ۔۔۔ ت الدارُ: گھر کا بے نشان ہونا۔ الماح و المَحّ: پرانا کپڑا۔

۲۔ المُحّ: خالص چیز۔ ۔۔۔ و المُحَّة: انڈے کی زردی۔ المُحاح: بھوک۔ المَحّاح: جھوٹا۔ صرف باتوں سے خوش کرنے والا۔ کام کر کے نہ دینے والا۔ الاَمَحّ: موٹا۔

(ج) مَحّ: بوسیدہ۔ تارتار، پھٹا پرانا، فرسودہ۔ مُحّ: بہترین یا پسندیدہ ترین حصہ۔ مختصر مگر معنی خیز، خلاصہ، ملخص، اہم، ماحصل، جوہر، انڈے کی زردی۔

محت: ۱۔ مَحَتَ ۔ مَحْتًا فلانًا: کسی کو بہت غضبناک کرنا۔ کہا جاتا ہے: اِنّي لأَمْحَتَنَّك: میں تمہیں غیض و غضب سے بھر دوں گا۔

۲۔ مَحُتَ ۔ مُحَاتَةً اليومُ: دن کا گرم ہونا۔ المَحْت جمع مُحتَاء و مُحُوت: گرم دن، سخت چیز۔

۳۔ المَحْت جمع مُحتَاء و مُحُوت: عقل مند، ذہین، تیز فہم، خالص۔ کہا جاتا ہے: هُوَ عَرَبِيٌّ مَحْتٌ بَحْتٌ: وہ خالص عرب ہے۔

محج: ۱۔ مَحَجَ ۔ مَحْجًا الرجُلَ: جلدی کرنا۔ العودَ او اللحمَ: لکڑی یا گوشت چھیلنا۔ ۔۔۔ شيئًا عن شيءٍ: کو سے پونچھنا۔ ۔۔۔ ت الريحُ الارضَ: ہوا کا غبار اڑا لیجانا۔

۲۔ مَحَجَ ۔ مَحْجًا الجلدَ: چمڑے کو نرم کرنے کے لئے ملنا۔ ۔۔۔ اللبنَ: دودھ بلونا۔ ۔۔۔ الدلوَ (کنوئیں میں) ڈول ہلانا۔

۳۔ مَحِجَ ۔ مَحْجًا الرجُلُ: جھوٹ بولنا۔ مَاحَجَ مِحَاجًا و مُمَاحَجَةً: سے ٹال مٹول کرنا۔ المَحّاج: جھوٹا۔

محر: المَحارَة: کستورا مچھلی، کستورا مچھلی کا کھپرا، خوردنی سمندری صدفیہ، کرنی، کرنڈی۔

محس: مَحَسَ ۔ مَحْسًا الجلدَ: چمڑے کو نرم کرنا اور رنگنا۔ الأَمْحَس: ماہر چمڑا رنگنے والا۔

محش: ۱۔ مَحَشَ ۔ مَحْشًا الجلدَ: کھال پر سے گوشت چھیلنا۔ ۔۔۔ الطعامَ: بہت کھانا کھانا۔ ۔۔۔ السيلُ مَا مَرَّ عليه: سیلاب کا ہر اس چیز کو بہا لیجانا جس پر سے اس کا گزر ہو۔ ۔۔۔ مَحْشَةً وجهَهُ بالسيف: تلوار مار کر کسی کے چہرے کی کھال چھیل دینا۔۔۔۔۔ و أَمْحَشَ الحرُّ او النارُ الجلدَ: گرمی یا آگ کا کھال جلانا۔ اِمْتَحَشَ: جلنا۔ ۔۔۔ فلانٌ غضبًا: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔ ۔۔۔ القمرُ: چاند کا چھپ جانا۔ ۔۔۔ تْهُ النارُ: کو آگ کا جلانا۔ المُحاش: جلا ہوا۔ المَحاش: آپس میں عہد کرنے کے لئے آگ کے گرد جمع ہونے والے۔ سنةٌ مَحُوش و مُمْحِشَة: خشک سال۔

۲۔ المَحاش: گھر کا سامان۔

محص: ۱۔ مَحَصَ ۔ مَحْصًا الظبيُ في عدوه: ہرن کا بہت تیز دوڑنا۔ المذبوحُ برجلِهِ: مذبوح کا تڑپنا۔ ۔۔۔ بفلانٍ الارضَ: کو زمین پر پٹکنا۔ ۔۔۔ فلانٌ من فلانٍ: سے بھاگ جانا۔ اِنْمَحَصَ فلانٌ من يده: کے ہاتھ سے نکل جانا۔ اِمْتَحَصَ الظبيُ في عدوه: ہرن کا تیز دوڑنا۔

۲۔ مَحَصَ ۔ مَحْصًا اللهُ مَا بِكَ: اللہ کا تمہاری مصیبت دور کرنا۔ ۔۔۔ الشيءَ: کو ہر عیب سے پاک کرنا۔ ۔۔۔ الذهبَ بالنار: آگ سے سونے کو ملاوٹ سے پاک کرنا۔ ۔۔۔ الحبلَ: رسی کو مضبوط بٹنا۔ ۔۔۔ السِنانَ: بھالے کو صیقل کرنا۔ ۔۔۔ البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ مَحِصَ ۔ مَحَصًا الحبلُ: رسی کا نرم اور ہموار ہونا۔ مَحَّصَ الشيءَ: کو کم کرنا۔ کہا جاتا ہے: مَحَّصَ اللهُ عن فلانٍ ذنوبَهُ: اللہ تعالیٰ نے اسکے گناہ کم کر دیئے اور اسے ان سے پاک کر دیا۔ ۔۔۔ اللحمَ: گوشت کو پٹھے سے صاف کرنا یعنی پٹھے نکال کر صاف کرنا۔ ۔۔۔ ہ عنه: کو سے دور کرنا اور پاک صاف کرنا۔ ۔۔۔ الرجُلَ: کو آزمانا۔ اُمْحِصَ مِنَ المرضِ: مریض کا بیماری سے صحت یاب ہونا۔ ۔۔۔ ت الشمسُ: سورج کا گرہن سے نکلنا۔ ۔۔۔ ہ عنه: کو سے دور کرنا۔ تَمَحَّص

الظلامُ: اندھیرے کا دور ہونا۔انْمَحَص الورمُ: ورم کا کم ہونا۔ ۔ت الشمسُ: سورج کا ظاہر ہونا۔ المُحُص من الخيل: مضبوط ساخت کا گھوڑا۔ المَحِص من الحبال و الاوتار: نرم رسّی یا تانت۔المَحَّاص: ماحص کا اسم مبالغہ۔برق مَحَّاصٌ: چمکنے والی بجلی۔الأَمْحص: ہر جھوٹے سچے کا عذر قبول کر لینے والا۔المَحِيص و المُمَحَّص من الخيل: مضبوط ساخت کا گھوڑا۔۔۔۔۔ من الأسنّة: صیقل شدہ بھالا۔المَمْحُوص من الخيل: مضبوط ساخت کا گھوڑا۔

مَحَصَ - مَحْصًا ه: کو صاف کرنا، پاک کرنا، کو واضح کرنا۔مَحَّصَ ه: کو صاف شفاف کرنا، پاک کرنا، واضح کرنا۔ نیز مَحَّصَ ه: کی تصحیح کرنا، کو ٹھیک کرنا، کو جانچنا، کی آزمائش کرنا، کا تجربہ کرنا، کا بغور مشاہدہ کرنا۔أَمْحَصَ: دوبارہ نظر آنا، دوبارہ ظاہر ہونا، دوبارہ آنا، دوبارہ برآمد ہونا، دوبارہ نکلنا، دوبارہ ظہور میں آنا، دوبارہ باہر نکلنا۔تَمَحَّصَ: مندرجہ بالا معانی۔نیز تَمَحَّصَ، واضح ہونا، پاک ہونا۔انْمَحَصَ: واضح ہونا، پاک ہونا۔مَحِيص: روشن، چمکیلی، کوندنے والی (تلوار)۔تَمْحِيص: توضیح، وضاحت، جانچ پڑتال، مکمل امتحان، جائزہ۔

محض: مَحَضَ - مَحْضًا فلانا الودَّ او النصحَ: سے خالص محبت و دوستی کرنا، کی خالص خیر خواہی کرنا۔ الرجُلَ: کو خالص دودھ پلانا۔مَحُضَ - مُحُوضَةً نسبُ الرجل و مَحُضَ الرجل فی نسبه: خالص نسب ہونا یا ہو جانا۔مَحِضَ - مَحْضًا: خالص دودھ پینا۔مَاحَضَ هُ الودَّ: سے خالص محبت اور دوستی کرنا۔أَمْحَضَ فلانًا الودَّ او الحديثَ: سے محبت یا گفتار میں سچا ہونا۔۔۔۔ لهٗ النصحَ: کی سچی خیر خواہی کرنا۔امْتَحَضَ الرجُلُ: خالص دودھ پینا۔الماحِض: خالص دودھ کا مشتاق۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ مَاحِضٌ: خالص نسب والا۔ المَحْض (مص) جمع مِحَاض من اللبن و نحوه: خالص اور ملاوٹ کے بغیر دودھ وغیرہ۔ عام طور پر خالص اور صریح۔ کہا جاتا ہے عَرَبِیٌّ مَحْضٌ اور عربیۃ محضًا: خالص نسب کا عرب۔ (مصدر ہونے کی وجہ سے) اس میں مذکر مؤنث اور تثنیہ اور جمع یکساں ہیں۔ اگرچہ تانیث و تثنیہ اور جمع بھی جائز ہے۔ المَحِض: خالص دودھ کا مشتاق۔الأُمْحُوضة: خالص یا مخلصانہ نصیحت۔المَمْحُوض مؤنث مَمْحُوضة: خالص کہا جاتا ہے فِضَّةٌ مَمْحُوضَةٌ: خالص چاندی جس میں کھوٹ نہ ہو۔

مَحُضَ - مَحْضًا ه: سے کسی بات میں مخلص ہونا، کو محبت پیار وغیرہ دکھانا، پر محبت پیار وغیرہ واضح کرنا۔ مَحُضَ - مُحُوضَةً: خالص نسب والا ہونا، خالص ہونا، بے ملاوٹ ہونا، بے کھوٹ ہونا، کھرا، اصلی اور حقیقی ہونا۔أَمْحَضَ ه: سے کسی بات میں مخلص ہونا۔تَمَحَّضَ ل: اپنے آپ کو صرف کے لئے وقف کرنا، مخصوص کرنا، نذر کرنا یا صرف کسی کام میں لگ جانا، کے لئے وقف ہونا۔مَحْض: خالص نسب کا خالص، بے ملاوٹ، بے کھوٹ، اصلی، حقیقی، کھرا، بالکل، محض، نرا، سراسر، یکسر، صاف۔مَحْضًا: کھرا، محض، نرا۔بِمَحْضِ إختياره: مکمل طور پر از خود، خود بخود، خود آپ سے، آپ ہی آپ۔لِمَحْضِ صالِحِهَا: محض اس کے مفاد میں، صرف اس کی اپنی بھلائی کے لئے۔أُمْحُوضَة: مخلصانہ نصیحت، صلاح، مشورہ، رائے، ہدایت۔

محط: مَحَطَ - مَحْطًا و مَحَّطَ الوترَ: تانت کو برابر کرنے کے لئے سونتنا۔۔السهمَ: تیر چلانا۔امْتَحَطَ السيفَ: تلوار سونتنا۔۔۔۔ الرمحَ: نیزہ کھینچنا۔۔۔۔ البعيرُ: اونٹ کا دوڑنا۔عام مَاحِطٌ: کم بارش کا سال۔

محق: مَحَقَ - مَحْقًا الشیءَ: کو باطل کرنا، مٹانا۔۔۔۔ اللّٰهُ الشیءَ: کو کا گھٹانا، کو بے برکت کرنا۔۔فلانًا: کو ہلاک کرنا۔۔۔۔ الحرُّ الشیءَ: گرمی کا کسی چیز کو جلا ڈالنا۔مُحِقَ الرجُلُ: قریب المرگ ہونا۔مَحَّقَ الشیءَ: کو باطل کرنا، مٹانا۔أَمْحَقَ المالُ: مال کا ہلاک و برباد ہونا۔۔الرجُلُ: کے مال پر تباہی آ پڑنا۔۔۔۔ القمرُ: چاند کا مہینہ کی آخری راتوں میں ہونا۔تَمَحَّقَ و امَّحَقَ: مضمحل ہونا، باطل ہونا، مٹنا۔ إمْتَحَقَ: مضمحل ہونا، باطل ہونا، مٹنا۔۔۔۔ الحرُّ الشیءَ: گرمی کا کسی چیز کو جلانا۔۔۔۔ النباتُ: پودے کا خشک ہونا اور گرمی سے جلنا۔۔۔۔ الرجُلُ: قریب المرگ ہونا۔۔۔ الشیءُ: چیز کی خیر و برکت جاتی رہنا۔انْمَحَقَ: مضمحل ہونا، باطل ہونا، مٹنا۔۔۔۔ الهلالُ: مہینہ کے آخر میں چاند کا دکھائی نہ دینا۔ الماحِق فا۔ مَاحِقُ الصيف: موسم گرما کی شدت۔یومٌ ماحِقٌ: سخت گرم دن۔المَحْق (مص): کھجور کے قریب قریب لگے ہوئے پودے۔ المَحْقَة: ہلاکت۔المَحَاق والمُحَاق والمِحَاق: قمری ماہ کا اخیر (آخری تین راتیں)۔ سنانٌ مَحِيقٌ: باریک اور تیز بھالا۔الأَمْحَق: بے برکت تھوڑی چیز۔المَمْحَقَة: مَحْق سے مَفْعَلة کا صیغہ جو کسی چیز کے وجود کی کسی جگہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے التبذير ممحقةٌ للمال: فضول خرچی مال کے لئے سخت تباہ کن ہے۔

مَحَقَ - مَحْقًا ه: کو مٹانا، محو کرنا، کا نام و نشان مٹا ڈالنا، چھیل ڈالنا، جڑ سے اکھاڑنا، کا استیصال کرنا، قلع قمع کرنا، کو تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا۔أَمْحَقَ: چاند کا گھٹنا، نظر نہ آنا، تلف ہونا، فنا ہونا، مر جانا۔

تَمَحَّقَ و انْمَحَقَ و امَّحَقَ نیز امْتَحَقَ: مٹ جانا، مٹنا، تباہ ہونا، برباد ہونا، تلف ہونا، فنا ہونا، نیست و نابود ہونا۔مَحْق: مٹانا، محو کرنا، نام و نشان مٹانا، قلع قمع، استیصال، بیخ کنی، بربادی، تباہی، پائمالی، فنا، انہدام، ہلاکت کالعدم ہونا۔مَحَاق و مُحَاق و مِحَاق: چاند کا گھٹنا۔

محك: مَحَكَ - مَحْكًا و مَحِكَ - مَحَكًا و تَمَحَّكَ الرجلُ: باتوں میں جھگڑنا، اور بھاؤ کرنے میں جھگڑا کرنا۔ صفت مَحِكٌ و ماحِكٌ و مَحْكان۔ مَاحَكَ مُمَاحَكَةً فلانا: سے جھگڑنا۔أَمْحَكَ الرجُلُ: باتوں میں جھگڑنا۔ بھاؤ کرنے میں جھگڑا کرنا۔۔۔۔ الخصومُ فلانًا: کو دشمنوں کا غضبناک کرنا۔تَمَاحَكَ الخصمان: آپس میں جھگڑنا۔ المُمْتَحِك: جھگڑالو۔ بد خلق۔

مَحَكَ - مَحْكًا و مَحِكَ - مَحَكًا: جھگڑالو ہونا، کٹ حجتی ہونا، حجتی، تکراری یا الٹی کھوپڑی کا ہونا۔ جھگڑنا، تو تو میں میں کرنا، شور مچا کر جھگڑنا، معمولی باتوں پر الجھنا، ہٹ دھرمی سے جھگڑنا۔مَاحَكَ ه: سے جھگڑا کرنا، سے تو تو میں میں ہونا، سے بھڑنا، بحث بحثی کرنا۔ امْحَكَ و تَمَحَّكَ: بمعنی مَحَكَ۔ مَحِك: جھگڑالو، کٹ حجتی، مباحثہ جو، معمولی معمولی باتوں پر الجھنے والا۔ جھگڑالو شخص، معمولی باتوں پر الجھنے والا شخص، تو تو میں میں کرنے والا۔مَاحِك و مُمَاحِك بمعنی مَحِك۔

محل: امَحَلَ - و مَحِلَ - مَحْلًا و مُحُولا و مَحُلَ - مَحَالَةً المكانُ: جگہ کا قحط زدہ ہونا۔ صفت ماحل۔ أَمْحَلَ المكانُ: جگہ کا قحط زدہ ہونا۔ صفت مُمْحِل۔ الارضُ مُمْحِلٌ و مُمْحِلَةٌ: یہ قحط زدہ زمین ہے۔۔ المطرُ: بارش کا رکنا۔۔۔۔ القومُ: قوم کا قحط زدہ ہونا۔ صفت مُمْحِلُون ۔۔ اللّٰهُ الارضَ: اللہ کا زمین کو قحط زدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: ارضٌ مَاحِلٌ: قحط زدہ زمین۔المَحْل جمع مُحُول و أَمْحَال: شدت۔ قحط، سخت بھوک، بارش کی بندش،

زمین کی خشکی، کہا جاتا ہے: رجلٌ مَحْلٌ: بے فیض شخص۔ارضٌ مَحْلٌ و مَحْلَةٌ و مَحُولٌ و مَحُولة جمع ارضون مَحْلٌ و مُحُولٌ: قحط زدہ زمین۔ ارضٌ مُمْحِلٌ و مُمْحِلَة: قحط زدہ زمین۔ارض مِمْحَال: قحط زدہ زمین۔

۲۔مَحَلَ ـ و مَحِلَ ـ و مَحُلَ ـ مَحْلاً و مِحَالاً به الی الامیر: امیر سے کی چغلی کھانا۔صفت مَاحِلٌ و مَحُولٌ و مَحَّالٌ ـ بصاحبه: پر بہتان لگانا، کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس نے نہیں کہی۔ مَحَلَ فلاناً: کو قوی کرنا۔آپ کہتے ہیں: مَحِّلْنِي يا فلان: اے فلاں شخص مجھے قوی کر۔مَاحَلَ ـ مِحَالاً و مُمَاحَلَةً: سے مکر کرنا، قوت آزمائی کیلئے آپس میں زور کرنا۔ سے دشمنی کرنا، کو ہٹانا، سے جھگڑا کرنا۔ تمحّل الشيء و له: کو حیلہ سے طلب کرنا۔ ـ لفلان حقّه: کا حق حاصل کرنے کی تجویز کرنا۔ تَمَاحَلَ القومُ: آپس میں حیلہ بازی کرنا۔ الماحِل (فا): جھگڑا کرنے والا حریف۔کہا جاتا ہے: رَأيتُهُ مَاحِلاً: میں نے اس کا رنگ بدلا ہوا دیکھا۔المَحْل جمع مُحُول و امْحَال: دھوکہ، مکر۔المَحِل: دھتکارا ہوا یہاں تک کہ تھک جائے۔کہا جاتا ہے ذِئبٌ مَحِلٌ: مکار، حیلہ باز۔المِحَال: مکر، فریب، جھگڑا، عذاب، مصیبت، سزا، سختی، طاقت، ہلاکت، ہلاک کرنا، حیلوں بہانوں سے کسی کام کی آرزومندی، تدبیر، دشمنی۔ المَحَالَة جمع مَحَال۔ مَحَال کی جمع مُحُل: کہا جاتا ہے: لا مَحَالة: ضروری، لابد، بیشک۔المَحَّال: مکار، فریبی، دھوکے باز، شیطان۔

۳۔مَحَلَ الشيءَ: کو لمبا کرنا۔تَمَاحَلَتْ بهم الدارُ: کے گھر دور ہونا۔المُتَمَاحِل: لمبا اور بے ڈھنگا آدمی یا اونٹ۔رجلٌ مُتَمَاحِلٌ: بہت لمبا مرد۔رأيتُهُ مُتَمَاحِلاً: میں نے اسے بدلے ہوئے جسم میں دیکھا۔فَلاةٌ مُتَمَاحِلَة: وسیع ریگستان۔فتنةٌ متماحِلة: طویل اور نہ ختم ہونے والا فتنہ۔

۴۔تَمَحَّلَ الدراهمَ: نقد درہم لینا۔

۵۔المَحْل جمع مُحُول و امْحال: گرد و غبار۔المَحَال: بڑی چرخی۔ایک قسم کا زیور۔المَحَالَة جمع مَحَال جس کی جمع مُحُل ہے بڑی چرخی، اونٹ وغیرہ کی پیٹھ کا مہرہ۔وہ لکڑی کا تختہ جس پر کھڑے ہو کر کھگل کریں۔المِمْحَلَة: دودھ کا مشکیزہ۔

مَحَلَ ـ و مَحِلَ ـ مَحْلاً و مُحُولاً و مَحُلَ ـ مَحَالَةً: زمین کا بنجر ہونا، سال کا بے برگ و بار ہونا۔ مَحَلَ و مَحِلَ ـ و مَحُلَ ـ مَحْلاً و مِحَالاً ب: کے خلاف سازش کرنا، ساز باز کرنا۔امْحَلَ: بنجر ہونا، خشک ہونا۔ ۂ (زمین کو) بنجر کرنا۔بارش نہ ہونا، بارش کا رکنا، بارش میں تاخیر ہونا۔تَمَحَّلَ ۂ: فریب یا ساز باز سے کوئی چیز حاصل کرنے کی خواہش کرنا، کے لئے فریب سے جدوجہد کرنا، بہانہ ڈھونڈنا۔ ـ ل: کا اشتہار دینا، کو مشتہر کرنا (عیاری سے یا ناجائز ذرائع سے)۔تَمَحَّلَ العذرَ: بہانہ کرنا، عذر کرنا، بہانہ بنانا۔مَحْلٌ: بنجرپن، بانجھ پن، عدم زرخیزی، خشکی، سوکھا پن، قحط سالی، خشک سالی، امساک باران کال، کمیابی، کمی، تنگی، قحط، عیاری، چالاکی، ہوشیاری، حکمت، مکاری، استادی، حیلہ گری، دروغ بیانی، دھوکہ، دغا، مکر، فریب۔مَحَالَة جمع مَحَال: چرخی، گھرنی۔مِحَال: عیاری، مکاری، ہوشیاری، چالاکی، استادی، فریب، مکر۔ماحِل: بنجر، بانجھ، کلر، شور، عریان، روکھا، بے رنگ، سنسان، ویران۔مُمْحِل: بنجر، بانجھ، کلر، شور۔

محن: ا۔مَحَنَ ـ مَحْنًا: عشرين سوطاً: کو بیس کوڑے مارنا۔ ـ الناقةَ: اونٹنی کو چلا کر تھکانا۔ ـ فلاناً: کو آزمانا، پرکھنا۔ ـ الفضّةَ: چاندی کو تپا کر کھوٹ سے پاک کرنا۔اسم المِحْنَة۔ ـ البئرَ: کنویں کی مٹی اور کیچڑ نکالنا۔ ـ الثوبَ: کپڑا پہن کر پرانا کرنا۔ ـ و مَحَّنَ الاديمَ: چمڑے کو نرم کرنا، لمبا کرنا۔اِمْتَحَنَ الشيءَ: کو آزمانا۔اسی سے ہے امتحانُ الطلبة: طالب علموں کا امتحان لینا۔ ـ القولَ: پر غور کرنا، کو سوچنا۔ ـ الفضّةَ: چاندی کو تپا کر صاف کرنا۔المُحْن (مص): ہر نرم چیز۔لگاتار چلنا یا کام کرنا۔کہا جاتا ہے: كان في مَحْنٍ: وہ ثابت قدم ہے۔لگاتار کام کرنے والا ہے۔المِحْنَة جمع مِحَن: آزمائش۔

۲۔مَحَنَ ـ مَحْنًا فلاناً شيئاً: کو کوئی چیز دینا۔المَحْن: عطیہ، بخشش۔

مَحَنَ ـ مَحْنًا و اِمْتَحَنَ ۂ/ہ: کو آزمانا، کا امتحان لینا، کو جانچنا۔ ـ ہُ: کی آزمائش کرنا، کا امتحان کرنا، امتحان لینا۔مِحْنَة جمع مِحَن: سخت آزمائش، کڑی آزمائش، سخت امتحان، مصیبت، رنج، دکھ، رنج والم، قہر، بپتا، ایذا، سختی، مشکل، تکلیف، بدنصیبی، بدبختی۔امتحان جمع امتحانات: ٹسٹ، تجربہ، امتحان۔امتحان الدخول: داخلہ کا امتحان۔اِمتحان نهائي: آخری امتحان۔مُمْتَحِن: امتحان لینے والا، ٹسٹ لینے والا۔مُمْتَحَن: امتحان لیا ہوا، آزمایا ہوا، ٹسٹ لیا ہوا، جس کا امتحان لیا جائے۔امتحان دینے والا، امیدوار، طالب، خواستگار۔

محو: مَحَا يَمْحُو و يَمْحَى مَحْوًا الشيءَ: کو مٹانا، کا نام و نشان مٹا دینا۔صفت مَمْحِيّ و مَمْحُوّ کہا جاتا ہے: محت الريحُ السحابَ و الصبحُ الليلَ: ہوا بادل کو اڑا لے گئی اور صبح رات کو لے گئی۔ و اِمَّحَى و امْتَحَى الشيءُ: مٹنا، نام و نشان مٹنا۔(امتحی امّحی کے معنی میں کمزور لغت ہے)۔ مَحَّى الشيءَ: کو مٹانا، دور کرنا۔تَمَحَّى تمهياً من القوم: قوم سے معافی کی درخواست کرنا۔ المَحْو (مص): چاند کا سیاہ داغ۔المَحْوَة: اسم مرہ، عار، بارش، کہا جاتا ہے۔اصابت الارضَ مَحْوَةٌ اوهَبَّتْ مَحْوَةٌ: شمالی ہوا چلی کیونکہ وہ بادل کو اڑا لے جاتی ہے۔المِمْحَاة: پونچھنے کا چیتھڑا، تولیہ، ربڑ، عوام اسے مِحَّايَة کہتے ہیں۔

مَحَا ـ مَحْوًا ۂ: کو دھو ڈالنا، دور کرنا، مٹا ڈالنا، حرف غلط کی طرح مٹانا، محو کرنا، چھیل ڈالنا، کاٹنا، قلمزن کرنا، کا نام و نشان مٹانا، کو جڑ سے اکھاڑنا، کا استیصال کرنا، قلع قمع کرنا، بجھانا، ختم کرنا، خارج کرنا، منسوخ کرنا، نیست و نابود کرنا۔لا يُمْحَى اثرُ: انمٹ۔

مَحَّى ۂ: کو دھو ڈالنا، مٹا ڈالنا، حرف غلط کی طرح مٹانا، کو بجھانا، ختم کرنا، کا قلع قمع کرنا، جڑ سے اکھاڑنا، جڑ بنیاد سے اکھیڑنا۔تَمَحَّى و اِنْمَحَى وامَّحَى و امْتَحَى: مٹنا، محو ہونا، نام و نشان مٹنا، ختم ہونا، حرف غلط کی طرح مٹنا۔قلع قمع ہونا، دفعتہً غائب ہو جانا، فضا میں تحلیل ہو جانا۔نظر سے اوجھل ہونا، کھو جانا، کافور ہو جانا۔مِمْحاة و مَحّاية: جس شئے سے مٹایا جائے، ربڑ (eraser)۔ماحِيَة: ربڑ، جس شئے سے مٹایا جائے۔

محی: مَحَى يَمْحَى و يَمْحِي مَحْيًا: کو مٹانا۔

مخج: مَخَجَ ـ مَخْجًا و تَمَاخَجَ الدلوَ و بالدلو: پانی بھرنے کے لئے ڈول کو ہلانا۔تَمَخَّجَ الدلوَ و بالدلو: پانی بھرنے کے لئے ڈول کو ہلانا۔ ـ الماءَ: پانی کو ہلانا۔

مخ: مَخَّخَ و تَمَخَّخَ و اِمْتَخَّ العظمَ: ہڈی سے گودا نکالنا۔اَمَخَّ العظمُ: ہڈی کا گودے دار ہونا۔ ـ العودُ: لکڑی کا تر ہونا۔ ـ الزرعُ: کھیتی کا پر مغز ہونا۔ ـ ت الشاةُ: بکری کا موٹی ہونا۔المُخّ جمع مِخَاخ و مِخَخَة: گودا، بھیجا، دماغ، آنکھ کی چربی، نرم، خالص، کہا جاتا ہے: لا ارى لامرك مُخًّا: مجھے تمہارے کام میں بھلائی نظر نہیں آتی۔ ـ ولمُخة: گودے کا ٹکڑا۔کہا جاتا ہے هؤلاء مُخُّ القوم و مُخَّةُ القوم: یہ قوم کے برگزیدہ ہیں۔المُخَاخَة:

ہڈی کا وہ گودا جو چوسنے سے منہ میں آجائے۔
المَخِيخ: گودے دار ہڈی۔شاۃٌ مَخِيخة جمع
مَخَائِخ: گودے والی بکری۔ابل مَخَائِخ: بہترین
اونٹ۔کہا جاتا ہے لَهُ لِسَانٌ مِمَخٌ: وہ فصیح اللسان
ہے۔

مُخ جمع مِخَاخ و مِخَخة: دماغ، گودہ، مغز، ہڈیوں کا
مغز، حرام مغز، گری، ست، روح، جوہر، پاک ترین
اور سب سے بڑھ کر پسندیدہ حصہ۔مُخِّی: دماغ کا
دماغی، مغز کے متعلق۔

المُخا: موچا (جنوب مغربی یمن کی بندرگاہ)

مخر: ۱۔مَخَرَ ـــ مَخْرًا و مُخُورًا السفينة:
کشتی کا پانی کو آواز کے ساتھ چیرتے ہوئے چلنا۔ــ
الارضَ: زمین کو زراعت کیلئے پھاڑنا۔کو پانی دینا۔
ــ السابحُ: تیرنے والے کا ہاتھوں سے پانی کو چیرنا۔
ــ الذئبُ الشاةَ: بھیڑیے کا بکری کے پیٹ کو
پھاڑنا۔ــ مَخَرَ البيتَ: گھر کا عمدہ سامان
لینا۔تَمَخَّرَ و استَمخَرَ الريحَ: ہوا کی طرف
ناک کرنا۔ہوا کی سمت میں پیٹھ کرنا۔امتَخَرَ الريحَ:
ہوا کی طرف ناک کرنا، ہوا کی سمت پیٹھ کرنا۔ــ الشيءَ:
کو اختیار کرنا۔ــ القومَ: قوم کے بہترین لوگوں کا
انتخاب کرنا۔ــ العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔المَخر
(مص)۔المَخْرَة: مخر کا اسم مرہ۔منہ سے نکلنے والی
بدبو۔ــ السِخرة و المُخرة: منتخب شئ، پسندیدہ
چیز۔الماخِرة جمع مَوَاخِر۔ماخر: کا مونث۔
کشتی۔الماخور جمع مَوَاخِر و مَوَاخِير: بدکاروں
کی مجلس۔آوارگی کا اڈہ۔بدکاری کے اڈے کا دلال۔
۲۔بناتُ مَخرٍ: ہلکے سفید بادل۔
۳۔مَخرَقَ مَخرَقةً: جھوٹ بولنا، جھوٹ تراشنا۔

مَخَرَ ـ مَخرًا و مُخُورًا: ہل چلانا۔ـه: کو پھاڑنا،
دو ٹکڑے کرنا، کشتی کا سمندر سے گزرنا۔مَاخِر و
مَاخِرة جمع مَوَاخِر: کشتی، جہاز۔ماخور جمع
مَوَاخِير: طوائف کا گھر، رنڈی کا مکان، چکلا۔

مَخرَقَ: شیخی بگھارنا، جھوٹ موٹ کہنا، دھوکا دینا، بے
ایمانی کرنا، دغابازی کرنا۔

مخض: مَخَضَ ـ مَخضًا اللبنَ: دودھ بلونا۔لبن
مَخِيضٌ و مَمخُوض: بلویا ہوا دودھ۔ــ الشيءَ:
کو زور سے ہلانا۔ــ بالدلو: پانی بھرنے کے لئے
ڈول کو کنویں میں ہلانا۔ــ البئر بالدلو: کنویں سے
اکثر ڈول ڈال اور ہلا کر پانی نکالنا۔ــ الرأيَ: رائے
پر خوب غور کرنا۔

مَخِضَ ـ مَخَاضًا و مِخَاضًا و مُخِضَ و مَخَضَت
ــ الحاملُ: حاملہ کا دردزہ میں مبتلا ہونا۔صفت مَاخِض
جمع مُخَّض و مَوَاخِض۔اُمخِضَ اللبنُ: دودھ
کے بلوے جانے کا وقت قریب آنا۔ــ الرجُلُ: بچے
جننے کے قریب اونٹنیوں والا ہونا۔تَمَخَّضَ اللبنُ:
دودھ کا مکھن نکلا ہوا ہونا، دودھ بلونے کے برتن میں
ہلنا۔ــ الولدُ: بچہ کا ماں کے پیٹ میں پھرنا۔ــ
الحاملُ: حاملہ کا جننے کا وقت قریب آنا اور دردزہ ہونا۔
ــ المساءُ: آسمان کا برسنے کے قریب ہونا۔ــ
الدهرُ بالفتنة: زمانہ نے فساد پیدا کر دیئے۔
تَمَخَّضَت الليلةُ عن صباحِ سوءٍ: رات بری صبح
لائی۔امتَخَضَ اللبنُ: دودھ کا مکھن نکلا ہوا ہونا،
مکھن دودھ کا مکھن نکالنے کے برتن میں ہلنا۔ــ
الولدُ: بچے کا پیٹ میں ہلنا۔استَمخَضَ اللبنُ:
دودھ کے جمنے میں دیر ہونا۔ــت الحاملُ بولدها:
حاملہ کا دردزہ میں مبتلا ہونا۔المَخَاض: دردزہ۔
الإمخاض: دودھ جب تک بلونی میں رہے۔المِمخَض
و المِمخَضة جمع مَمَاخِض: مشکیزہ۔دودھ بلونے
کا برتن بلونی۔

مَخَضَ ـ مَخضًا ہ: دودھ بلونا، دودھ سے مکھن
نکالنا۔ـه: کسی چیز کو زور سے ہلانا۔مَخِضَ ـ
مَخاضًا و مِخاضًا: جننے ہی والی ہونا، دردزہ میں
مبتلا ہونا۔تَمَخَّضَ بمعنی مَخِضَ نیز تَمَخَّضَ عن:
پھل دینا، کو وجود میں لانا، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، کا باعث
ہونا، کو کرنا، عمل میں لانا۔تَمَخُّض: دودھ کا بلویا جانا،
دودھ سے مکھن نکلنا۔مَخَاض: دردزہ۔مَخِيض:
مکھن نکلی لسی، چھاچھ۔مَخَاضة و مِمخَضة جمع
مَمَاخِض: چاٹی، مٹکی۔

مخط: ۱۔مَخَطَ ـ مَخطًا الشيءَ: کو کھینچ کر لمبا
کرنا۔ــ السيفَ: تلوار سونتنا۔ـه بيده: کو ہاتھ سے
مارنا۔ــ المُخاطَ: رینٹ صاف کرنا۔ــ الصبيَّ:
بچے کی رینٹ صاف کرنا۔ــ غرسَ فلانٍ: کے پودے
کی پرورش کرنا اور اس کی نشوونما پرداخت کرنا۔ــ الولدُ:
باپ کے مشابہ ہونا۔ــ مَخطًا و مخوطًا السهمُ:
تیر کا پار ہونا۔صفت ماخط۔مَخَّطَ الولدَ: بچے کی
رینٹ صاف کرنا۔امَخَطَ السهمَ: تیر کو پار کرنا۔
تَمَخَّطَ: رینٹ صاف کرنا۔امتَخَطَ: رینٹ
صاف کرنا۔ــ الشيءَ: کو چھین لینا۔ــ السيفَ:
تلوار سونتنا۔المَخط (مص): راکھ۔المُخاط جمع
أمخِطَة: رینٹ۔ناک کی ریزش۔مُخاط
الشيطان: دوپہر کے وقت مکڑی کے جالے کی طرح
اوپر سے نیچے آتی ہوئی دکھائی دینے والی چیز۔اس کو
مُخاط الشمس اور لعابُ الشمس بھی کہتے
ہیں۔المُخاطِي: مخاط کی صفت والا۔المَخطة:
ایک دفعہ کا ناک جھاڑنا۔ایک بار۔
۲۔مَخَطَ ـ مَخطًا الرجُل في الارض: زمین میں تیز
چلنا۔ــ الجملُ به: اونٹ کا کسی کو جلدی لیجانا۔
۳۔تَمَخطَطَ الرجُلُ: چلنے میں لڑکھڑانا۔
۴۔المُخط: چھوٹا کپڑا۔المَخِط جمع مُخَاط: فیاض
سردار۔

مَخَطَ ـ مَخطًا و مُخوطًا و تَمَخَّطَ: ناک سنکنا
یا صاف کرنا۔مُخاط: ناک کا لیس دار مادہ۔ناک کی
ریزش، ناک (بمعنی ناک کا لیس دار مادہ)۔مُخاط
الشمس و مُخاط الشيطان: شیطان کی ڈور، جالا

مخل: المُخل جمع مُخَال و مُخُول: سبل، گدالا، بیرم
(lever)۔پتھر اٹھانے یا توڑنے کا آلہ۔

مخمخ: مَخمَخَہ: کا گودا نکالنا۔مغز نکالنا۔

مَخمَضَ: منہ کھنگالنا۔

مخن: ۱۔مَخَنَ ـ مَخنًا: رونا۔ــ البئرَ: کنویں سے
پانی نکالنا۔ــ العودَ: لکڑی چھیلنا۔
۲۔مَخُنَ ـ مَخنًا و مُخونًا: لمبا ہونا۔صفت مَخنٌ و
مَخِنٌ م مَخنة و مَخِنة۔المَخِنُّ: لمبا تڑنگا
آدمی۔المِخنة: مِخنّ کا مونث۔لمبی تڑنگی عورت۔
۳۔المخنة: گھر کا صحن۔

مخي: مَخِيَ الرجُلُ عن الامر: کو معاملہ سے ہٹانا،
دور کرنا۔امخَى امخاءً و امتَخَى اليه: سے عذر
کرنا۔ــ منه: سے بری ہونا، بیزار ہونا۔تَمَخَّى
إليه: سے عذر کرنا، معذرت کرنا۔ــ منه: سے بری
ہونا، بیزار ہونا۔ــ العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔

مدّ: مَدّ ـ مَدًّا الشيءَ و بالشيءِ: کو پھیلانا، کھینچنا۔
ــ الحرفَ: حرف کو کھینچ کر پڑھنا۔ــ الارضَ:
زمین میں دوسری جگہ کی مٹی ڈالنا، یا کھاد ڈالنا۔ــ
الإبلَ: اونٹوں کو دیر تک پانی پلانا۔ــ الرجُلَ: کو
مہلت دینا، کی فریادرسی کرنا اور مدد کرنا۔ــ الجندَ:
فوج کو کمک پہنچانا۔ــ الدواةَ: دوات میں پانی اور
روشنائی بڑھانا، دوات میں روشنائی ڈالنا، قلم کو روشنائی
مہیا کرنا۔ــ من الدواةِ: دوات سے لکھنے کے لئے قلم کے
ذریعے روشنائی لینا۔ــ البعيرَ: اونٹ کو جو یا تل یا آٹا
ملا ہوا پانی پلانا۔ــ اللهُ عمرَهُ: اللہ کا کسی کی عمر دراز
کرنا۔ــ النهارُ: دن کا چڑھنا۔ــ النهرُ
والبحرُ: دریا یا سمندر کا چڑھنا (لازم ومتعدی)۔کہا
جاتا ہے قلّ ماءُ ركيّتنا فمدّتها ركيّةٌ اخرى:
کنویں کا پانی کم ہوگیا تو دوسرے کنویں نے اس کو بڑھا

دیا۔ ھذا الوادی یَمُدُّ فی وادی کذا: یہ نالہ دوسرے نالے کے پانی کو بڑھاتا ہے۔ مَدَّ نظرَہُ اِلیہ: کی طرف نگاہیں موڑنا، پراچٹتی ہوئی نظر ڈالنا۔ السراجَ بالسلیط: چراغ میں تیل ڈالنا۔ فی السیر: گزرنا۔ ــــ ہُ فی غَیِّہ: کی گمراہی میں زیادتی کرنا۔ مَدَّدَ الشیءَ: کو پھیلانا۔ مادَّ مِدادا و مُمادَّۃً ہُ: کو ٹال مٹول کرنا۔ بڑھانا ہُ الثوبَ: ایک دوسرے کے کپڑے کو کھینچنا۔ اَمَدَّ النہارُ: دن کا چڑھ آنا۔ ــــ الجرحُ: زخم میں پیپ پڑنا۔ ــــ الرجُل: کو مہلت دینا، کی فریادرسی کرنا، کی مدد و اعانت کرنا۔ الجندَ: لشکر کو کمک پہنچانا الدواۃ: دوات میں روشنائی یا پانی ڈالنا۔ ــــ الکاتب: کاتب کے قلم کو ڈوبا دینا۔ ــــ اَجلَہُ: کی مدت دراز کرنا، مؤخر کرنا۔ ہُ اللّٰہُ فی الخیر: کی بھلائی یا نیکی زیادہ کرنا۔ فلاناً بالمال: کو مال دینا، فی مشیتہ: چال میں مٹکنا، ناز و انداز سے چلنا۔ ــــ ہُ فی غَیِّہ: کی گمراہی میں زیادتی کرنا، کی گمراہی کو بڑھانا۔ مَدَّدَ الشیءَ: کو پھیلانا۔ مادَّ مِدادا و مُمادَّۃً ہُ: کو کھینچنا، ٹال مٹول کرنا۔ ــــ ہُ الثوبَ: ایک دوسرے کے کپڑے کو کھینچنا۔ اَمَدَّ النہارُ: دن کا چڑھنا، بلند ہونا۔ ــــ الجرحُ: زخم میں پیپ ہونا۔ ــــ الرجُل: کو مہلت دینا، کی اعانت کرنا، فریادرسی کرنا۔ ــــ الجندَ: فوج کی مدد کرنا۔ ــــ الدواۃ: میں روشنائی ڈالنا، روشنائی یا پانی زیادہ کرنا۔ ــــ الکاتبَ: کو قلم کا ڈوبا دینا۔ ــــ اَجلَہ: کو طویل کرنا، مؤخر کرنا۔ ہُ اللّٰہُ فی الخیر: کو خیر میں زیادہ کرنا۔ فلاناً بمالٍ: کو مال دینا۔ فی مشیتہ: ناز و انداز سے چلنا۔ ــــ ہ فی غَیِّہ: کی گمراہی میں زیادتی کرنا۔ تَمَدَّدَ: پھیلنا، انگڑائی لینا۔ تَمَدَّدوا الشیءَ بینھم: چیزوں کو آپس میں پھیلانا۔ تَمادَّا الثوبَ: مل کر کپڑا کھینچنا۔ اِمتَدَّ: پھیلنا۔ انگڑائی لینا۔ فی مشیتہ: مٹک مٹک کر چلنا۔ ناز و انداز سے چلنا۔ ــــ النہارُ: دن کا آدھا ہونا۔ ــــ بہم السیرُ: کا سفر دراز ہونا ــــ الی الشیء: کو دیکھنا۔ اِستَمَدَّ من الدواۃ: دوات سے روشنائی لینا۔ ــــ القومُ الامیرَ علی العدو: قوم کا امیر سے دشمن کے خلاف مدد مانگنا۔ المادَّۃ جمع مَواد و مادّات: مادکا مؤنث: جس سے کسی چیز کی ترکیب ہو، جس پر وہ مبنی ہو۔ مادہ المادَّۃ الاولی: پہلا مادہ جس سے کوئی چیز بالقوۃ حاصل ہوتی ہے۔ مَوادُ اللغۃ: الفاظ لغت۔ موادُ العِلم: علمی

مباحث۔ المادِّی: مادہ کی طرف منسوب۔ مادہ پرست۔ المادِّیَۃ: مادہ پرستی۔ المَدّ (مص): فاصلہ، وسعت، کہا جاتا ہے بینی و بینہ قدرُ مَدِّ البصر: میرے اور اس کے درمیان نظر کی وسعت جتنا فاصلہ ہے۔ حرف مدّ: جیسے، آ، الف پر کی علامت۔ دن کا چڑھنا۔ کہا جاتا ہے اِتیتہُ مدَّ النہار و مدَّ الضحی: میں اس کے پاس دن چڑھے آیا۔ مدُّ البحر: سمندر کے پانی کا چڑھاؤ اور خشکی تک پھیل جانا۔ اس کے مقابل جزر کا لفظ ہے۔...... جمع مُدود: سیلاب۔ المُدّ جمع اَمداد و مِداد و مَدَدَہ: ایک پیمانہ جو ۱۸ فرنگی لیٹروں کے برابر ہے۔ المَدَّۃ: مدّ کا اسم مرۃ۔ قلم کا ایک ڈوبہ۔ صرف مد (~)۔ المُدَّۃ جمع مُدَد: ایک مرتبہ قلم سے لی ہوئی سیاہی۔ عرصہ۔ زمانہ کا ایک حصہ کم ہو یا زیادہ۔ زمان و مکان کی غایت وانتہاء کہا جاتا ہے لھذہ الامۃِ والارض مُدَّۃ: اس امت اور زمین کی ایک انتہاء ہے۔ المِدَّۃ: نوع، قسم، پیپ۔ المَدَد: امداد، فریادرسی، کہا جاتا ہے اَمدَدتُہ بمَدَدٍ: میں نے مدد سے اس کو قوت دی اور اس کی اعانت کی۔ المِداد: سیاہی، روشنائی، چراغ کا تیل، کھاد، مثال و طریقہ۔ آپ کہتے ہیں: ھم علی مِدادٍ واحدٍ: وہ ایک ہی طریقہ پر ہیں۔ سبحانَ اللّٰہ مِدادَ السمٰوات: اللہ تعالیٰ آسمانوں کے شمار اور کثرت سے بہت بلند ہے۔ المَدّاد: فاؤنٹین پین۔ المِدّان: کھاری پانی۔ المَدید: چارہ۔ علم عروض کی ایک بحر کا نام۔ جمع مُدُد۔ مونث مَدیدۃ: کھنچا ہوا، لمبا۔ کہا جاتا ہے قدٌّ مدید: لمبا قد۔ فلانٌ مدید القامۃ: فلاں طویل القامت ہے۔ قِدَّۃٌ مَدیدۃ: طویل فیتہ، لمبی پٹی۔ المُدَیدَۃ: تھوڑی مدت، مدت کی تصغیر۔ الاِمِدَّۃ: تانا۔ الاِمِدّان: کھارا پانی۔ الاُمدُود: عادت۔ المَمَدّ: مصدر میمی۔ چیز کے کھینچنے کی جگہ۔ المُمتَدّ: علم عروض ایک بحر کا نام۔ المَمدُود (مفع) علم صرف میں ہر وہ اسم معرب جس کے آخر میں ہمزہ ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ جیسے صحراء۔ مال مَمدُود: بہت مال۔

۲۔ المِدّان والاِمِدّان: نمکین یا کھارا پانی۔ بہت زیادہ کھارا پانی۔

○ مَدَّ ـ مَدّا ہ: کو پھیلانا، لمبا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا، کشادہ کرنا، وسعت دینا، سارس کی طرح گردن آگے کو کرنا، میں دیر کرنا، کو ملتوی کرنا، التوا میں ڈالنا، کھینچنا۔ ترتیب دینا، کا نقشہ ذہن میں تیار کرنا، راستہ یا پائپ لائن بچھانا۔ (جال) پھیلانا، کو لمبا کرنا، کھینچنا، کو طول دینا، مہلت دینا۔ ــــ (سیلاب، دریا) کا چڑھنا۔ ــــ ہ: کی مدد کرنا، کو امداد دینا۔ ــــ ہ ب: کی سے تائید کرنا، کو کچھ مہیا کرنا، کو کچھ بہم پہنچانا، کو کچھ سپلائی کرنا۔ ــــ ہ: لشکر کو کمک پہنچانا۔ ــــ ہ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ مدّ عمرَہُ: اللہ کا کسی کی عمر دراز کرنا۔ مدّا البصرَ اِلی: کی طرف آنکھیں موڑنا، پر سرسری نظر ڈالنا۔ مدّ جذرا فی الارض: درخت کا زمین میں جڑ پکڑنا۔ مدّ الحبالۃَ لہ: کے لئے جال بچھانا۔ کے لئے پھندا لگانا۔ مدّ رجلَہ بقدرِ کساءِ ہ: چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا۔ مدر جلیہ بقدرِ لحافہ: چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا۔ مدّ سمعَہُ: چوکنا ہونا، کان کھڑے کرنا۔ مدّ المائدۃَ: دسترخوان بچھانا۔ مدّ فی المشی: ڈگ بھرنا۔ مدّ المواسیرَ: پائپ بچھانا۔ مدّ الیہ یدہ: کی طرف ہاتھ بڑھانا۔ مَدَّدَ ہ: بمعنی مدّ یعنی کو پھیلانا، لمبا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا، کشادہ کرنا، کو وسعت دینا۔ ــــ: زخم کا پیپ خارج کرنا، میں پیپ پڑنا، زخم خراب ہو جانا، ناسور بن جانا۔ مادَّی: تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، ملتوی کرنا، ڈھیل کرنا، معرض تعویق میں ڈالنا۔ ــــ ہ: کو روز بروز کوئی عذر کر کے ٹال جانا۔ اَمَدَّہ: کی مدد کرنا، کو مدد دینا، کی اعانت کرنا۔ ــــ ہ ب: کی سے تائید کرنا، حمایت کرنا، ہمت بڑھانا، کی کفالت کرنا، کا کفیل ہونا، کا سہارا ہونا۔ ــــ ہ/ہ ب: کو کچھ مہیا کرنا، کو کچھ بہم پہنچانا، کو سے آراستہ کرنا۔ ــــ ہ ب: کو کچھ پہنچانا۔ فوج کو کمک پہنچانا۔ ــــ: ملتوی کرنا، تاخیر کرنا، مہلت دینا، پیپ پڑنا۔ اَمَدَّ باجلہ: اللہ کا کسی کو زندگی میں ایک اور مہلت دینا۔ تَمَدَّدَ: پھیلنا، بڑھنا، لمبا ہونا، بڑا ہونا، وسیع ہونا، کشادہ ہونا، (بستر وغیرہ پر) لیٹنا یا پر یوں گرنا کہ ٹانگیں پھیل جائیں، پر دراز ہونا، پاؤں پسار کر لیٹنا۔ اِمتَدَّ: پھیلنا (تاریں پائپ لائن) بچھنا۔ ــــ اِلی: تک پھیل جانا، تک پہنچنا، ــــ: ایک فاصلہ تک، پھیلا ہوا ہو، لمبا ہونا، طویل ہونا ــــ اِلی: بڑھ کر، تک پہنچنا، بڑھ کر کچھ ہو جانا۔ اِستَمَدَّہ من: کچھ سے لینا، حاصل کرنا، نکالنا، اخذ کرنا، سے مستنبط کرنا، مشتق کرنا۔ ــــ ہ: اپنے آپ کو کچھ بہم پہنچانا یا فراہم کرنا۔ ــــ ہ: سے مدد طلب کرنا۔ مَدّ جمع مُدود: پھیلاؤ، وسعت، بڑھاؤ، فراخی، کشادگی، لمبا کرنا، کھچاؤ، زیادتی، درازی، دوری، طول دینا، طوالت، وقفہ، التواء، چڑھاؤ، پانی یا سیلاب کا چڑھنا۔ ــــ ب: کی فراہمی، بہم رسانی۔ مَدّ البصر: حد نگاہ، مَدُّ البصر: جہاں تک آنکھ دیکھ سکے۔ مَدُّ النظر: دور بینی، دور اندیشی۔ حروف المد: ا، و اور ی۔

مَدَّة: الف پر مد کی علامت جیسے آ۔ مَدَّ جمع أَمْداد و مِداد: ایک پیمانہ مِدَّة: پیپ، پیپ پڑا ہوا مادہ۔ مُدَّة جمع مُدَد: عرصہ (وقت کا) وقفہ، مدت، وقت، دیر، دوران، محدود یا مقررہ وقت، میعاد۔ مُدَّةَ: کے اندر، کے اندر اندر، کے دوران میں، کے دوران۔ في مُدَّةِ: کے اندر اندر، کے دوران میں، کے دوران۔ مدة (من الزمن) عرصہ، مدت، وقت، زمانہ، عہد دور، وقفہ۔ مُدَّةً من الزمن: کچھ دیر کے لئے، کچھ عرصہ کیلئے، کچھ وقت کیلئے، مَدَد جمع أمْداد: مدد اعانت، سہارا، پشت پناہی، کمک جمع أمداد: وسائل، معاون ذرائع۔ مِداد: سیاہی، روشنائی، چراغ کا تیل، کھاد، گوبر، نمونہ، اسلوب۔ سَجَّلهُ بمدادِ الفخر: کو سنہرے حروف سے لکھنا۔ على مدادٍ واحدٍ: ایک ہی نمونہ یا عمدہ مثال کی نقل میں یا تقلید میں، ایک ہی نمونہ یا عمدہ مثال جیسا۔ مَدِيد جمع مُدد: پھیلا ہوا، پھیلایا ہوا، کھنچا ہوا، لمبا کیا ہوا، لمبا، طول پکڑ جانے والا، بہت طول پکڑ جانے والا، دراز، بڑا، پتلا اور لمبا، دبلا پتلا، چھریرا، بلند، بہت، زمانٌ مَديدٌ یا مُدَّةٌ مَدِيدَةٌ: طویل وقت، لمبا عرصہ۔ عمر مديد: بڑی عمر۔ مديدُ البصر: دوربین، دوراندیش، مرد آخر بین۔ مَدَّاد: ایک بیل جو دیوار یا درختوں وغیرہ پر چڑھی ہوتی ہے۔ إمْدَة: تانا، تار، امدادات: معاون چیزیں، کمک، رسد (supplies)۔ على امتداد: کے کنارے، کے کنارے پر، کے ساتھ، کے شانہ بشانہ، کے پہلو بہ پہلو۔ مادّ: زمین پر پھیلنے والی ایک بیل مادّة جمع مواد: چیز، شے، مال، مادہ، مادی قبضہ، اصل، اصل جز، جس چیز سے کچھ بنایا جائے سامان (material) جزو، جزو ترکیب، مشتمل حصہ، لازمی جز۔ جز، ترکیبی، بنیادی جز، مکمل اور کیمیاوی عنصر، بنیاد، موضوع، مرکزی خیال، جواب مضمون، موضوع، مبحث (مدرسے کا) مضمون، میدان مطالعہ، تعلیمی شعبہ، موضوع (subject matter) نصابی مضمون، مضمون، مقالہ (قانون وغیرہ کا) پیراگراف یا فقرہ، شرط معاہدہ۔ جمع: سامان، مال، جس سے کچھ بنایا جائے۔ اسباب، عوامل، عناصر۔ مادة اصلية: کسی لفظ کی اصل۔ مَوادُّ أوّليَة: ابتدائی عناصر، خام مال، مواد تجارية: اشیائے تجارت، سامان تجارت۔ مواد التجميل: سنگار کا سامان۔ مواد جنائية: مجرموں کے مقدمات (criminal cases)۔ موادُّ حَربيةٌ: جنگی سامان۔ مواد خام: خام مال۔ مواد الصباغة: جن چیزوں سے رنگ تیار کئے جاتے ہیں، رنگ، رنگنے کے مسالے۔ مواد صُلبة: ٹھوس اجزاء یا اشیاء۔ مواد مَصنُوعة: بنائی ہوئی چیزیں، ریڈی میڈ چیزیں۔ مواد التطبيب: کھانے یا لگانے کی دوائیں، دوائیں۔ مواد الإعاشة و مواد المعيش: کھانے پینے کی اشیاء خوراک۔ مواد غذائية: اشیائے خوراک، کھانے پینے کا سامان، خوراک، غذائی اشیاء، چارا۔ مواد اللغة: کسی زبان کا ذخیرہ الفاظ۔ مواد مضادّةٌ لِلحَيَويات: جراثیم کش ادویہ۔ موادُّ مُلتَهبة: آتش گیر مادے، ایندھن، فوراً جل اٹھنے والے مادے۔ مواد مدنية: دیوانی مقدمات۔ مواد النَسِيج: کپڑے پارچے۔ مادي: مادی، حیوانی، جسمانی، دہری، مادہ پرستانہ جمع ماديون: دہریہ، مادہ پرست، خارجی، معروضی، واقعیت پسندانہ غیر جذباتی۔ مادِية: مادیت، مادہ پرستی، دہریت۔ الماديات و المعنويات: مادی اور خیالی اشیاء۔ مَمْدُود: بڑھایا ہوا، وسیع کیا ہوا، پھیلا ہوا، لمبا کیا ہوا، طول دیا ہوا، باہر نکالا ہوا، بڑا، دور تک پھیلا ہوا بہت۔ مدّہ لگایا ہوا۔ مُمَدَّد: پھیلا ہوا، بے قاعدہ، پھیلا ہوا، پڑا ہوا، دراز، لیٹا ہوا، لمبا، کھینچا ہوا۔ مُمْتَدّ: پھیلا ہوا، کھلا، وسیع، کشادہ، جامع۔ مُستَمَدّ من: سے لیا ہوا، سے اخذ کیا ہوا، سے مستنبط، سے مشتق۔ مَدالِيَة جمع مَدالِيات: تمغہ۔ مَدالِيُون: بڑا تمغہ، لاکٹ، تعویذ، (کان کا) آویزہ، (گلے کا) ہار۔

مدح: مَدَحَ - مَدْحًا و مَدَّحَ ہُ: کی تعریف کرنا۔ مَادَحَ ہُ: کی تعریف کرنا۔ تَمَدَّحَ: غیر موجود خوبیوں پر فخر کرنا، اپنی تعریف آپ کرنا۔ ۔۔ الرجُلَ: کی تعریف کرنا۔ ۔۔ إلى الناس: لوگوں سے تعریف چاہنا۔ تَمادَحَ القومُ: ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔ اِمْتَدَحَ: وسیع ہونا۔ ۔۔ فلاناً: کسی کی تعریف کرنا۔ اِمَّدَحَ: وسیع ہونا۔ المِدْحَة جمع مِدَح: مدح کا اسم۔ تعریف المَدِيح جمع مَدائِح و الأُمْدُوحَة جمع أماديح تعریف۔ المَمادِح: اچھی صفات، پسندیدہ خوبیاں (مقابح کا الٹ)۔

○ مَدَحَ - مَدْحًا و مِدحَةً ہ: کی تعریف کرنا، کی حمد وثنا کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا، کی ستائش کرنا، کے گن گانا، کو بڑھانا چڑھانا، کو نظموں میں مشہور کرنا۔ مَدَّحَ ہ: بمعنی مَدَحَہ۔ تَمَدَّحَ: تعریف کیا جانا، ستائش کیا جانا۔ ۔۔ ب: کی ڈینگ مارنا، خودستائی کرنا، پر اترانا، نازاں ہونا، فخر کرنا، گھمنڈ کرنا، کسی بات میں اپنے آپ پر اترانا یا فخر کرنا، پر بے جا فخر کرنا۔ اِمْتَدَحَ: بمعنی مَدَحَ۔ مَدْح: ستائش، تعریف، توصیف، مدح، تحسین، حمد وثنا، آسمان پر چڑھانا، چار چاند لگانا، مدحی لٹریچر۔ المدح في الله: اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تمجید۔ مديح جمع مدائح: تعریف، ستائش، توصیف، مدحی قصیدہ۔ مدح قصیدہ۔ مدح سرائی، مدحت۔ قصیدہ مدحیہ۔ خراج تحسین۔ أُمْلُوحة جمع أماديح: بمعنی مدیح۔ تَمَدُّح: ستائش، تعریف، حمد وثناء، تکبیر، تمجید، خودستائی، لاف زنی، شیخی، خودنمائی۔ مَادِح و مَدّاح: ثناخوان، قصیدہ گو، مدح گو۔ مدّاح: مدح کرنے والا، تعریف و تحسین کرنے والا۔

مدخ: ا۔ مَدَخَ - مُدُخًا: بڑا ہونا۔ تَمَدَّخَ: تکبر کرنا، ۔۔ ت الإبلُ: اونٹ کا بہت چربی والا ہونا۔ المادِخ و المَدِيخ و المِدِيخ: عظیم، قوی۔

۲۔ مَدَخَ - مَدْخًا فلاناً: کی پوری پوری مدد کرنا۔ مادَخَ ہُ: کی خیر وشر میں مدد کرنا۔

۳۔ تَمَدَّخَتِ الناقةُ: اونٹنی کا چلنے میں گھسٹنا۔ تَمادَخَ عليه: پر ظلم کرنا۔ ۔۔ عنه: میں سستی کرنا۔ اِمْدَخَ عليه: پر ظلم کرنا۔

۴۔ المَدُوخ و المُتَمادِخ: جلدی کام کرنے والا۔

مدر: مَدَرَ - مَدْرًا المكانَ: جگہ کو مٹی سے لیپنا۔ ۔۔ الحوضَ: حوض کی پتھر کی جھری کو مٹی سے بند کرنا۔ مَدِرَ - مَدَرًا: بڑے پیٹ والا ہونا۔ مَدَّرَ: بیٹ کرنا۔ ۔۔ المكانَ: جگہ کو مٹی سے لیپنا۔ ۔۔ الحوضَ: حوض کی پتھر کی جھری کو مٹی سے بند کرنا۔ تَمَدَّرَ: مٹی سے لپ جانا، آلودہ ہونا۔ اِمْتَدَرَ المَدَرَ: مٹی لینا۔ المَدَر (مص): بغیر ریت کی کیچڑ، شہر و دیہات، شہری لوگ۔ المَدَرَة: مٹی کا ڈھیلا۔ مَدَرَة الرجُلِ: گھر۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ سيّد مَدَرَتِه: فلاں اپنے شہر کا سردار ہے۔ المَدَرِيّ: دیہاتی۔ الأَمْدَر: بہت گوبر کرنے والا اور اسے روکنے سے عاجز، دونوں پہلوؤں سے خاک آلودہ، غبار آلودہ، بڑے پیٹ والا۔ رجُلٌ أَمْدَر: بڑے پیٹ اور پہلوؤں والا جو خاک آلود ہوں۔ المَدْراء: أمدر کا مؤنث (ح): بجو۔ بنو مدراءَ: شہری لوگ۔ مكانٌ مَدِير: مٹی سے لپی ہوئی جگہ۔ المَمْدَرَة و المَمْدُرَة: مٹی لینے کی جگہ۔ ابلٌ مُمَدَّرَة: موٹے فربہ اونٹ۔ مكانٌ مَمْدُورٌ: مٹی سے لپی ہوئی جگہ۔

○ مَدَر (اسم جمع واحد مدرة): مٹی یا گارے کے ڈھیلے، نباتاتی کھاد والی زرخیز مٹی، چکنی مٹی، گارا۔ اهل الوبَر و المَدَر: خانہ بدوش اور شہری، بدو اور بیٹھے رہنے والے آبادی۔ مَدَرة: مٹی یا گارے کا ڈھیلا، مٹی کا کوبڑا۔ مُدَراء: مدیر کی جمع: دیکھئے دور۔

مدْراس: جنوبی بھارت کا ایک صوبہ اور شہر۔
مدرید: میڈرڈ (Madrid) ایک شہر کا نام ہے۔
مدس: مَدَسَ ـ مَدْسًا الجلدَ و نَحوَهُ: چمڑے وغیرہ کو ملنا۔
مدش: امدَشَ ـ مَدْشًا من الطعام: تھوڑا سا کھانا کھانا۔ ـــ لفلانٍ من العطاء: کو تھوڑا دینا۔ مَدِشَ ـ مَدَشَتْ عینُهٗ: بھوک وغیرہ سے کی آنکھ کا تاریک ہونا، چندھیانا۔ ـــ ت یدُهٗ: کے ہاتھ کا ڈھیلے پٹھوں اور کم گوشت والا ہونا۔ صفت اَمْدَش م مَدْشاء جمع مُدْش۔ مَدَشَ و امْدَشَ: دینا، عطا کرنا۔ کہا جاتا ہے ما مَدَشْتُه شیئًا و لا امْدَشنی شیئا: نہ میں نے اسے کچھ دیا اور نہ اس نے مجھے کچھ دیا۔
المَدْش (مص): تھوڑی دی ہوئی چیز۔ المَدَش (مص): گرمی یا بھوک سے آنکھ کی تاریکی۔ ہاتھ کے پٹھوں کا ڈھیلا پن اور کم گوشت والا ہونا۔ عورت کے پستان پر گوشت کی کمی۔
۲۔ المَدَش: پاؤں کی پھٹن، چہرہ کی سرخی اور خشونت، حماقت، بے وقوفی، کہا جاتا ہے ما به مَدَش: اس کو کوئی بیماری نہیں۔ المَدِش: بیوقوف۔ کہا جاتا ہے ما به مَدْشَةٌ: اس کو کوئی بیماری نہیں۔ رجلٌ مَدَّاش الید: چور۔
مدع: المَدْعَة: ناریل جس کی گری نکال کر اسے پیالہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو۔ المُدَّعِیّ: ملعون نسب والا۔ المَیْدَع (ح): سمندر کی چھوٹی مچھلیاں۔
مدق: مَدَقَ ـ مَدْقًا الصخرةَ: چٹان توڑنا۔
مدل: تَمَدَّلَ بالمندیل: سر پر رومال باندھنا یا اس کی پگڑی باندھنا۔
مدن: مَدَنَ ـ مُدُونًا بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ (یہ فعل متروک الاستعمال ہے)۔ ـــ المدینةَ: شہر میں آنا۔ مَدَّنَ المدائنَ: شہر بنانا، آباد کرنا۔ تَمَدَّنَ: شائستہ و مہذب ہونا۔ تَمَدْیَنَ: آسودہ حال ہونا۔
المَدِینَة جمع مُدُن و مُدْن و مدائن: شہر، قصبہ۔ مدینہ منورہ جس کا نام ہجرت سے قبل یثرب تھا۔ مدینةُ السلام: بغداد۔ المَدائن: بغداد کے قریب ایک شہر جس میں کسریٰ کا ایوان تھا۔ جمع سے موسوم ہونے کی وجہ اس کا بڑا ہونا تھا۔ نسبت مدائنی: مدائن کا، مدائن کے متعلق۔
۲۔ المَدِین (ح): شیر۔ المَدان: ایک بت کا نام۔
○ مَدَّنَ: شہروں کی بنیاد رکھنا، شہر تعمیر کرنا، مہذب بنانا، متمدن بنانا، شہری بنانا، شہر آباد کرنا، انسان بنانا، نرم دل کرنا، شائستگی سکھانا۔ تَمَدَّنَ: مہذب ہونا یا ہو جانا، متمدن ہونا یا ہو جانا۔ تَمَدْیَنَ: مہذب یا متمدن ہونا یا ہو جانا۔ تہذیب و تمدن کی آسائشوں سے لطف اندوز ہونا، متمتع ہونا، شہر کی آسائشوں سے لطف اندوز ہونا، متمتع ہونا، زندگی کے مزے لینا۔ مدینة النبی یا المدینة: مدینہ منورہ جسے عموماً المدینة المنوَّرة کہا جاتا ہے۔ مدینة الکاب: کیپ ٹاؤن۔ المُدُن الکُبریٰ: بڑے شہر۔ مَدَنی: شہری، شہر میں رہنے والا، قصبہ میں رہنے والا، مہذب، متمدن شائستہ، حکومت کا غیر فوجی اہلکار (civilian)، معاشرتی، اجتماعی، بلدیاتی، لادینی، غیر مذہبی، مدینہ کا۔ دعویٰ مدنیة: دیوانی دعویٰ یا مقدمہ، دیوانی کارروائی۔ الطیران المَدَنی: شہری ہوابازی (civil aeronantics)
قانونٌ مَدَنیٌّ: دیوانی قانون۔ مَدَنِیَّة: تہذیب، تمدن۔ تَمَدُّن و تمدین: تہذیب، تمدن، اجتماعی یا معاشرتی، شائستہ ثقافت۔ تَمَدُّنی: مہذب، متمدن۔ مُتَمَدِّن: مہذب، متمدن، شائستہ، تعلیم یافتہ، پر تصنع۔ مُتَمَدْیِن: مہذب، متمدن، تہذیب و تمدن کی آسائشوں سے مستفید۔
مده: مَدَهَ ـ مَدْهًا: کی تعریف کرنا۔ صفت مَادِه جمع مُدَّه۔ تَمَدَّهَ الرجلُ: تعریف کیا جانا۔
مدی: مَادَی مُمادَاةً فلانًا: کو مہلت دینا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یمادیه احدٌ: اسے کوئی مہلت نہیں دیتا۔ اَمْدَی اِمْداءً فلانًا: کو مہلت دینا۔ ـــ الرجُلُ: عمر رسیدہ ہونا، زیادہ دودھ پینا۔ تَمَادَی فی غَیِّهِ: گمراہی میں دیر تک رہنا، اس پر اصرار کرنا۔ ـــ فی الامر: کام میں انتہا تک پہنچنا۔ بنا السفرُ: سفر کا لمبا ہونا۔ المَدَی: غایت، حد، کہا جاتا ہے بلغ مَدَی الحیاة: وہ زندگی کی انتہا کو پہنچ گیا۔ المُدْیَة والمِدْیَة جمع مُدًی و مِدًی و مُدْیات و مُدَیات: بڑی چھری۔ المُدْیُ جمع أمداء: شام اور مصر کا ایک پیمانہ جو ۱۹ صاع کے برابر ہے۔ المُدْیَة: غایت حد۔ کہا جاتا ہے بلغ مُدْیَة الحیاة: وہ زندگی کی انتہاء کو پہنچ گیا۔ ...... جمع مُدًی و مِدًی و مُدْیات و مُدَیات: بڑی چھری۔ مُدْیَةُ القوس: کمان کا وسطی حصہ۔ المَدِی جمع أمْدِیَة: جوہڑ۔ جوہڑ کا کھلا ہوا گندہ پانی۔ المِیداء: غایت، حد، کہا جاتا ہے بلغ مِیداءَ الحیاة: وہ زندگی کی انتہاء کو پہنچ گیا۔ کہا جاتا ہے: داری مِیداءَ دارِه: میرا گھر اس کے گھر کے سامنے ہے۔ الأمْدَی: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے فلانٌ أمْدَی العرب: فلاں شخص عربوں میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہے۔
○ مَادَی ہ: کو مہلت یا توقف دینا۔ امدی: بمعنی مَادَی۔ تَمادَی فی/ب/علی: پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، سے لگا رہنا، سے وفاداری کرنا، سے چپکنا، وابستہ رہنا۔ ـــ فی: کو جاری رکھنا، کو کرتے رہنا، میں دور تک جانا، حد تک جانا۔ تَمادَی: جاری رہنا، رہنا، لمبا ہونا۔ مَدًی: توسیع، وسعت، پھیلاؤ، وسیع علاقہ، پیمانے، پھیلاؤ، کشادگی، ترویج، مدت، عرصہ، رسائی، پہنچ، دائرہ، مار (range)، دسترس، گنجائش، حد نظر، خیال کی وسعت، فاصلہ، وقفہ، مدت، علاقہ، خطہ، حد، درمیانی فاصلہ، درجہ، پیمانہ، تناسب، انتہائی نقطہ، انتہاء، حد، غایت، نہایت، دوران، مدت۔ مدی: کی مدت کیلئے، کے دوران، دیئے گئے عرصہ میں۔ مدی البصر: حد نظر۔ مدی الحیاة: زندگی بھر کیلئے، عمر بھر۔ المدی الحَیَوِی: زندہ رہنے کیلئے جگہ۔ مدی الدوران: لگا تار، متواتر، پے در پے، ہمیشہ، دائمی، دوامی، بار بار۔ مدی الصوت: آواز کی رسائی، پہنچ، آواز کے پہنچنے کا فاصلہ۔ مدی العمر: عمر بھر۔ مدی الایام: لگا تار متواتر، پے در پے، تمام دنوں میں۔ بلغی مدی بعید: بہت فاصلہ پر۔ علی مدی عشر امتار: دس میٹر کے فاصلہ پر۔ بعید المدی: دور رس۔ مِدْفعٌ بعیدُ المَدَی: دور مار توپ۔ فی المدی الاخیر: بہر حال، بہر صورت، سب کچھ کہنے اور کرنے کے بعد۔ آخری تجزیہ میں۔ مَدْیَة و مُدْیَة و مِدْیَة جمع مُدًی و مِدًی و مُدْیات و مُدَیات: قصائی کا چھرا، چھرا، چھری۔ مَدَوِی و مُدَوِی و مِدَوِی: چھری چاقو والا، کاردگر، کارد فروش۔ مع التمادی مع طول التماری: اس نشیب و فراز کے بعد، آخر کار، آخر، بالآخر، انجام کار۔
○ مُدِیل جمع مُدِیلات: نمونہ (model) (فرانسیسی لفظ)
مذ: مُذْ: دیکھئے مُنْذُ۔
مذع: مَذَعَ ـ مَذْعًا الرجلُ: جھوٹ بولنا۔ المَذَّاع م مَذَّاعَة: بہت چلانے والا، باتونی۔ المَذِیع: جھوٹا۔
مذج: مَذِجَ ـ مَذَجًا الشیءُ: چیز کا کشادہ ہونا، پھولنا۔ مَذَّجَ تَمْذیجًا الشیءَ: چیز کو کشادہ کرنا، وسیع کرنا۔ تَمَذَّجَ الشیءُ: چیز کا کشادہ ہونا، پھولنا۔ ـــ الاناءُ: برتن کا بھرنا۔ ـــ البطیخُ: خربوزہ کا پکنا۔

مدح: مَدِحَ ـمَدَحًا: رگڑ کھانے یا پسینہ آنے سے، رانوں یا خصیوں یا سرینوں کا جلنا۔ سوزش کرنا، صفت اَمْدَح: تَمَدَّحَ الشیءَ: چیز کو چوسنا۔ المَدَح (مص): جنگلی انار کے پھول کا شہد۔ الاَمْدَح: بدبودار

مدح: تَمَدَّخَ الرجُلُ: چوسنا، چسکی لگانا۔ المَدَح: جنگلی انار کے پھول کا شہد۔

مذر: ۱۔ مَذِرَ ـمَذَرًا ت البیضۃُ: انڈے کا خراب بدبودار اور گندہ ہونا صفت مَذِرۃ۔ عوام کہتے ہیں: مُوذَرَتْ: انڈے کا گندہ اور بدبودار ہونا۔ مَمْوذِرۃ: گندہ انڈا۔ ـت نفسُہٗ او معدتُہٗ: کا جی متلانا، کے معدہ کا مضطرب ہونا۔ ــ الرجلُ: پانی کے خزانہ کی طرف بہت آمد و رفت رکھنا۔ اَمْذَرَ ت الدجاجۃ البیضۃَ: مرغی کا انڈے کو خراب اور گندہ کرنا۔ مَذَّرَ ت البیضۃُ او المعدۃُ او النفسُ: انڈے یا معدے کا گندہ اور خراب ہونا اور جی کا متلانا۔ المَذِر: سڑا ہوا خراب اور گندہ و میلا۔ امرأۃ مَذِرۃ: گندی عورت۔ الاَمْذَر: پانی کے ذخیرے کی طرف بہت آمد و رفت رکھنے والا۔ المِیذار من النساء: چغل خور عورت۔

۲۔ مَذَّرَ الشیءَ: چیز کو بکھیرنا، پراگندہ کرنا۔ تَمَذَّرَ: پراگندہ ہونا۔ ــ اللبنُ: دودھ کا مشک میں پھٹنا۔ کہا جاتا ہے: تفرَّق القومُ شذر مَذَرَ: لوگ ہر طرف بکھر گئے۔

ⓒ مَذِرَ ـمَذَرًا: انڈے کا گندہ ہونا، گل سڑ جانا۔ مَذَّرَ ہٗ: کو بکھیرنا، منتشر کرنا، تتر بتر کرنا، ادھر ادھر پھیلانا یا چھڑکنا۔ تمذَّر: بمعنی مَذِرَ۔ شَذَرَ مَذَرَ: ادھر ادھر بکھرا ہوا۔ مَذِر: خراب، سڑا ہوا، گلا سڑا، گندہ۔

مذق: ۱۔ مذق ـمَذْقًا اللبن: دودھ میں پانی ملانا۔ ــ فلانًا و لفلانٍ: کو پانی ملا دودھ پلانا۔ ــ الوُدَّ: خالص دوستی یا محبت نہ کرنا۔ مَاذَقَ مِذاقًا و مُماذَقۃً فلانًا فی الوُدِّ: سے سچی اور خالص دوستی یا محبت نہ رکھنا۔ اِمْتَذَقَ و امَّذَقَ الشرابُ او اللبنُ: شراب یا دودھ کا پانی میں ملا ہوا ہونا۔ لبنٌ مَذِقٌ و مَذِیقٌ و مَمْذُوقٌ: پانی ملا دودھ۔ المَذَاق: خالص دوستی نہ رکھنے والا، غیر مخلص۔

۲۔ رجُل مَذِقٌ: رنجیدہ و دل گرفتہ آدمی۔

ⓒ مَذْق: پانی ملی شراب۔ مَذِیق: پانی ملی چیز، پتلا، پانی ملا کر ہلکا اور پتلا کیا ہوا۔ مَذَّاق و مُماذِق: غیر مخلص، منافق۔

مذل: ۱۔ مَذَلَ ـمَذْلًا و مِذالًا و مَذِلَ ـمَذَلًا بسرّہ: پریشان ہو کر راز کھول دینا۔ و مَذَلَ ـمذالۃ ت نفسُہٗ بالشیء: کی فیاضی کرنا صفت مَذِیل۔ کہا جاتا ہے: مذل بمالہ و مذل بنفسہ: اس نے اپنے مال اور اپنی جان کی سخاوت کی۔ اَمْذَلَ ہٗ: کو دق کرنا، زچ کرنا۔ المَاذِل: سخی، فیاض وہ شخص جس کا نفس کسی چیز سے بھر جائے اور وہ اسے چھوڑ کر دوسری چیز کی امید لگائے۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مَذْلُ الید او النفس: فلاں شخص فیاض ہے۔ المَذِل: وہ شخص جس کا نفس کسی چیز سے بھر جائے اور اس کو چھوڑ کر دوسری چیز کی امید لگائے۔ پریشان، راز افشاء کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: ھو مَذِل بمھجتہ: وہ اپنی جان نثار کرنے والا ہے۔ المَذِیل جمع مَذْلَی: بے قرار پریشان، راز افشا کرنے والا۔ المِمْذَل: دق ہو کر راز بتانے والا۔

۲۔ مَذِل ـمَذَلًا ت رجلُہٗ: کے پاؤں کا سن ہو جانا، سو جانا۔ اَمْذَلَ ت رجلُہٗ: کا پاؤں سن ہو جانا۔ اِمْذَلَّ امْذِلالًا: سست اور ڈھیلا ہونا۔ ...... ـتْ رجلُہٗ: کا پاؤں سن ہونا۔ المَذَل (مص): سستی، بے حسی۔ المِمْذَل: جس کا پاؤں اکثر سن ہو جاتا ہو۔

۳۔ المِذْل: چھوٹے جسم والا۔ المُذْلۃ: کھجور کی گٹھلی، چٹان کا گڑھا۔

ⓒ مَذِل ـمَذْلًا و مَذَالًا: (راز) افشا کرنا، راز سے پردہ اٹھانا۔

مذی: ۱۔ مَذَی یَمْذِی مَذْیًا و مَذَّی الفرسَ: گھوڑے کو چرنے کیلئے چھوڑنا۔ اَمْذَی الفرسَ: گھوڑے کو چرنے کیلئے چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے: اَمْذِ بعنانِ فرسِکَ: اپنے گھوڑے کی لگام چھوڑ دے۔ ...... الشرابَ: شراب میں پانی ملا کر ہلکا کرنا۔ المَاذِیّ: شہد۔ المَاذِیّۃ: حلق میں جلد اترنے والی شراب۔ نرم یا سفید زرہ۔ المَذْیُ: حوض کی نالی سے نکلنے والا پانی۔ المِذی: حوض سے نکلتے ہوئے پانی کی نالی۔

۲۔ المَاذِی: لوہے کا ہر ہتھیار۔ المَذِیَّۃ و المَذیَۃ جمع مِذاء و مَذِیَّات: آئینہ، شیشہ۔

مرّ: ۱۔ مَرَّ ـمَرًّا و مُرورًا مَمَرًّا: گزرنا، عبور کرنا۔ ...... ہٗ و مَرَّ بہ و علیہ: کے پاس سے گزرنا، کے قریب سے گزرنا۔ مَرَّرَ الشیءَ: کو زمین پر پٹخ دینا۔ مَارَّ مِرارًا و مُمارَّۃً الرجُلَ: کے ساتھ گزرنا۔ ــ علی الارض: زمین پر کھنچا، کھینچا جانا۔ اَمَرَّ فلانًا بکذا: کو کے پاس سے گزارنا۔ ...... ہٗ علی الجسر: کو پل پر سے گزارنا، کو پل عبور کرانا ــ یدہٗ علی الشیء: کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا۔ تَمارَّ القومُ: ایک دوسرے کے پاس سے گزرنا۔ اِمْتَرَّ بہِ و علیہِ: سے گزرنا۔ اِسْتَمرَّ: گزرنا، جانا۔ المَرّ: بیلچہ، کرچھا، کہا جاتا ہے: جئتہٗ مرًّا اور مَرَّتین: میں اس کے پاس ایک یا دو بار آیا۔ المَرَّۃ جمع مَرّ و مِرار و مُرور و مَرّات: ایک بار، کہا جاتا ہے: لقیتُہٗ مَرَّۃً و ذات مَرَّۃٍ: میں اسے ایک دفعہ ملا۔ لقیتُہٗ ذاتَ المِرار: میں اسے کئی بار ملا۔ المَمَرّ (مص): گزرگاہ۔

۲۔ مَرَّ ـمَرًّا البعیرَ: اونٹ کو رسی باندھنا۔ اَمَرَّ الحبلَ: رسی بٹنا۔ کہا جاتا ہے: مازال فلانٌ یُمِرُّ فلانًا: کسی کا کسی کو بچھاڑنے کے لئے ہاتھا پائی کرنا۔ فلانٌ ذو نقض و اِمرار: فلاں شخص برسر اقتدار ہے۔ صاحبِ حل و عقد ہے۔ مَارَّ مِرارًا و مُمارَّۃً الرجُلَ: کو بچھاڑنے کے لئے اس سے لپٹنا۔ تَمارَّ ما بینھُمْ: ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔ کہا جاتا ہے: ھما یتمارَّان: وہ آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں۔ اِسْتَمَرَّ: ایک حالت پر یا طریقہ پر باقی رہنا۔ جاری رہنا، برقرار رہنا، ثابت قدم رہنا۔ ــ بہ علی کذا: کو پر برقرار رکھنا، ثابت و باقی رکھنا۔ ــ الرجُلُ: کا کام درست و استوار ہونا۔ ــ بالشیءِ: کو اٹھائے رکھنا۔ المَرّ (مص): رسی۔ المِرَّۃ (مص): رسی کی لڑی۔ حبل شدیدُ المِرَّۃ: سخت بٹی ہوئی رسی۔ جمع مِرَر و جج اَمْرار: رسی کی طاقت، طاقت، مضبوطی، ذہانت، کسی چیز کی دائمی حالت۔ المَرِیر و المَرِیرۃ جمع مَرائِر: پختہ ارادہ۔ ...... من الحبال: مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ رجُل مَرِیرٌ: طاقت ور پختہ ارادے والا۔ کہا جاتا ہے: اِسْتَمَرَّ مریرُہٗ: وہ کمزوری کے بعد طاقت ور ہو گیا۔ امرٌ مَرِیرٌ: مستحکم کام۔ المَرِیرۃ جمع مَرائِر: عزت نفس، رسی کی لڑی، کہا جاتا ہے: اِسْتَمَرَّت مریرتُہ علی کذا: وہ اس معاملہ میں نہ جھکا اور اس کا عادی ہو گیا۔ الاَمَرّ م مُرَّی: اسم تفضیل: زیادہ مستحکم۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ اَمَرُّ عقدا من فلانٍ: فلاں شخص کا معاملہ فلاں شخص سے زیادہ مستحکم اور عہد پورا کرنے میں بہتر ہے۔ المُمَرّ (مفع): مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ قِربۃ مَمْرُورۃ: بھری ہوئی مشک۔

۳۔ مَرَّ ـمَرارۃً: کڑوا ہونا، تلخ ہونا۔ مُرَّ یُمَرُّ ب مَرًّا و مِرَّۃً بفلان: پر صفرا کا غلبہ ہونا صفت مَمْرُور۔ مَرَّرَ الشیءَ: کو کڑوا بنانا، تلخ کرنا۔ اَمَرَّ الشیءَ: کو کڑوا بنانا۔ کہا جاتا ہے: ما اَمَرَّ فلانٌ و ما اَحْلَی: اس نے کوئی کڑوی یا میٹھی بات نہیں کی۔ ما یُمِرُّ و ما یُحلی: نہ ضرر رساں نہ نفع بخش۔ اِسْتَمَرَّ الشیءَ: کو کڑوا پانا۔ المارُورۃ: کھانے میں سیاہ دانہ جس سے وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ المُرّ: کڑوا۔ لوبان کی طرح گوند۔ مُرّ الصحاری: حنظل، اندرائن، موگھل،

خیار تلخ، کڑوا کھیرا، تلخ سیب۔ المِرّۃ جمع مِرار (ع ا): صفراء یا سوداء۔ المُرّۃ جمع مَرائِر: مُر کی مؤنث۔ کڑوی، کہا جاتا ہے۔ لقی منه الأمَرّین: اس نے اس سے بہت تکلیف پائی۔ ــــ جمع مُرّ و امْرار (ن): ایک قسم کی سبزی۔ بہت بخیل۔ ابو مُرّۃ: ابلیس کی کنیت۔ المُرّی: سالن، چٹنی۔ ایک قسم کی دواء۔ المُرار (ن): ایک کڑوی بوٹی۔ المَرارۃ (مص) جمع مَرائِر و مَرارات (ع ا): پتّا۔ المُرَیراء: گیہوں میں کالا دانہ جو پھینک دیا جاتا ہے۔ الأمَرّ: امعاء، آنتیں، معدہ۔ ــــ م مُرّی: زیادہ کڑوا۔ الامَرّان: غربت اور بڑھاپا۔ دو کڑوی چیزیں۔ کہا جاتا ہے: لقی منه الامرّین: اس نے اس سے بہت تکلیف پائی۔ اس نے اس سے سختی اور تلخی دیکھی۔

۴۔ مَرْمَرَ: غضبناک ہونا۔ تمَرمَرَ الرملُ: ریت کا اڑنا، موج مارنا۔ ــــ الجسمُ: جسم کا کانپنا۔ ــــ علی اصحابه: اپنے ساتھیوں پر تسلط رکھنا، کا امیر ہونا، عام لوگ اس کو بڑبڑانے اور شکایت کرنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ المَرمر: نرم، ہلتا ہوا، تھلتھلانے والا۔ المَرْمار: نازک بدن، تھلتھلانے والا۔ مؤنث مَرمارۃ۔ المُرامِر: بمعنی بالا۔ المَرمورۃ: نرم اور متاثر کن لونڈی۔

۵۔ مَرْمَرَ الماءَ: پانی زمین پر بہانا۔

۶۔ مَرْمَرَ الشیءُ: کڑوا ہونا (عوامی زبان میں)۔

۷۔ المَرْمَر: بہت رس والا انار۔ (طا) واحد مَرْمَرۃ: سنگ مرمر۔ سنگ مرمر کی ایک قسم جو بہت سفید ہوتی ہے (یونانی لفظ)۔ المَرْمَرۃ: بہت بارش۔ المُرْمار: بہت رس والا انار۔ المُرامِر: باطل۔

۸۔ المَرْمَریس: چکنا، سخت، مصیبت، لمبی گردن۔ المُرْمیس (ح): گیندا (یونانی لفظ)۔

ⓒ مَرّ ــ مَرًّا و مُرورًا و مَمَرًّا علی/ب: کسی شخص یا چیز کے پاس سے گزرنا، کے پاس سے ہو کر آگے جانا، سیر گشت کرنا، چہل قدمی کرنا۔ ــــ امام: کے سامنے مارچ پاسٹ کرنا، کے سامنے سے گزرنا۔ ــــ: وقت کا گزرنا۔ ــــ علی/ب: کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آنا، جانا یا چلنا یا گزرنا۔ کے کنارے کنارے جانا۔ ــــ من/ب/علی: میں سے گزرنا، جانا، چلنا، حرکت کرنا، مارچ کرنا یا سفر کرنا۔ ــــ من (ملک، جگہ، کمرہ) کو عبور کرنا، میں سے گزرنا، کے پار جانا، میں سے بہنا، میں سے نکل جانا، میں سے اڑ کر نکل جانا۔ ــــ فی: کسی علاقہ یا سرحد سے نکل جانا، کے پار ہونا، کو عبور کرنا۔ ــــ ب: کسی مرحلہ یا حالت سے گزرنا، کسی حالت یا صورت سے گزرنا۔ ــــ علی: سرحد، قطار، پہاڑ وغیرہ عبور کرنا۔ ــــ فوقَ: ہوائی جہاز کا کسی علاقہ پر پرواز کرنا۔ ــــ: چلے جانا، رخصت ہونا، روانہ ہونا۔ ــــ بفعل: کو کرتے رہنا، مَرّ ذکرُہ: اس پر بحث کی جا چکی ہے۔ اس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ کما مَرّ بنا: جیسا کہ یہ ہمارے سامنے سے گزرا، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ مَرّ بالامتحان: امتحان پاس کرنا۔ مَرّ بسلام: کسی افسوسناک حادثہ کے بغیر ہو جانا، اچھا ثابت ہونا، اچھا نکلنا۔ مَرّ علیه ببصرہ: کو بڑے غور سے دیکھنا، کو جلدی سے بغور پڑھنا، مَرّ مَرّ البرق: تیزی سے گزر جانا۔ مَرّ مَرّ الکرام: ایسے گزر جانا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، تیزی یا پھرتی سے گزر جانا۔ مَرّ به (علیه) مَرّ الکرام: کو کشادہ دلی سے نظر انداز کرنا، ــــ سے عظمت کے ساتھ چشم پوشی کرنا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا۔ مَرّرَ ہ: کو گزرنے دینا، کو منتقل کرنا، پہنچانا، (گیند) پاس کرنا۔ مَرّرَ سفینة علی القناۃ: جہاز کو نہر سے گزارنا یا لے جانا۔ امَرّہ علی/ب: کو کے پاس سے جانے یا گزرنے دینا، ــــ ہ/ ہ علی/ب کو سے گزرنے دینا، کی سے گزرنے میں رہنمائی کرنا، کو سے گزارنا، کو کچھ چھونا، کو میں داخل کرنا۔ امَرّ نظرۃً علی: پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، پر اپنی آنکھوں کو بھٹکنے دینا۔ اِستَمَرّ: قائم رہنا، باقی رہنا، ٹھہرنا، دیرپا ہونا، برقرار رہنا، جاری رہنا، پائیدار ہونا۔ ــــ علی/فی: کو جاری رکھنا۔ ــــ بفعل کو جاری رکھنا ــــ علی/فی: پر جمے رہنا، میں لگے رہنا، پر ثابت قدم رہنا، اڑے رہنا، کو کرتے رہنا، کے متعلق جدوجہد جاری رکھنا، کی کوشش کرتے رہنا۔ سے چپکنا، چسپاں ہونا۔ مَرّ: گزرنا، کے پاس سے جانا، گذرگاہ، گذر، عبور، راستہ، راہ، تبدیلی، تغیر، بڑھاؤ، پیش روی، عمل، گزرنا (وقت کا) رفتار وقت، لوہے کا پھاوڑا، کھرپا، کڑچھا، بیلچہ، رسی۔ علی مَرّ الزمان: وقت گزرنے کے ساتھ۔ مَرّۃ جمع مَرّات و مِرار: وقت، عرصہ، باری۔ مَرّۃً: ایک بار، مَرّتین: دو بار۔ مرّات: کئی بار، بار بار، اکثر۔ مِرارًا: کئی بار ایک سے زیادہ دفعہ، اکثر و بیشتر، گاہے گاہے، بعض اوقات، کبھی کبھی، خاص موقعہ پر۔ مَرّۃً ما یا ذات مَرّۃٍ: ایک بار، ایک دن۔ مَرّۃً اُخری یا مَرّۃً جدیدۃً: ایک بار پھر، نئے سرے سے، از سر نو۔ مَرّۃً بعد مرّۃ: بار بار، بارہا۔ مرّۃً عن مرّۃ: بار بار، بارہا۔ المرّۃ تِلوَ المرّۃ: بار بار، اکثر۔ مَرّۃً واحدۃً: فوراً، ایک بار، بالآخر، آخر کار، یکبارگی طور پر۔ اکثر من مرّۃٍ: ایک سے زیادہ بار، کئی بار۔ بالمرّۃ: مطلقاً، یقیناً، واقعی، تمام کا تمام، یکسر، ایک، تمام تر، بالکل، بالکل ہی، ہرگز، مطلق۔ (نفی کی صورت میں) نہیں قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، کسی طرح بھی نہیں۔ غیرَ مرّۃٍ یا غیر ما مرّۃ: کئی بار، ایک سے زیادہ دفعہ۔ کم مرّۃً: کتنی بار؟۔ للمرۃِ السادسة: چھٹی بار۔ لأخرِ مرّۃٍ یا للمرۃ الاخیرۃ: آخری بار۔ لاوّلِ مرّۃٍ: پہلی بار، مِراراً عدیدۃً: اکثر۔ مِراراً و تکراراً: بار بار۔ مُرور: گزرنا، پریڈ، مارچ پاسٹ (أمام کے ساتھ) گزرگاہ، مارچ، سفر، سیر (علی من ب کے ساتھ)، عبور، منتقلی، بہاؤ، روانی، پرواز (فوق کے ساتھ)، لگاتار فلمی منظر۔ آمد و رفت، عمل، ترقی، بڑھنا، دوران وقت، (وقت کا) گزرنا، معائنہ۔ مرور الزمان: آخری مدت کا خاتمہ۔ تذکرۃ المُرور: پرمٹ، پاس، پاسپورٹ۔ حرکة المرور: سیدھی، براہ راست یا بلا مزاحمت آمد و رفت۔ شُرطةُ المرور: ٹریفک پولیس، شاہراہ پر گشت کرنے والی پولیس۔ نظام المرور: ٹریفک کے ضوابط۔ ممر: گزرنا، قریب سے گزرنا، وقت کا گزرنا، وقت کا اختتام، تبدیلی، عبور، رسائی، پہنچ، راہ راستہ، گزرگاہ جمع مَمَرّات: درمیانی راستہ، پایاب مقام (پہاڑی درہ۔ ممر سُفلی: زمین دوز درہ۔ علی ممر العصور: صدیوں کے دوران۔ اِمرار: (سے) گزارنا، (میں) داخل کرنا۔ باستمرار: لگاتار، متواتر، پے درپے، اکثر، ہمیشہ۔ دواماً و استمراراً: ہمیشہ، مسلسل لگاتار، پے درپے، بلا رکاوٹ و خلل۔ قوۃُ الاستمرار: سستی، کاہلی۔ مارّ: گزرنے والا، جانے والا، چلنے والا، سوار وغیرہ جمع مارّون و مارّۃ: راستہ چلنے والا، راہ گیر، پیادہ، پے دل، سیر کرنے والا، ٹہلنے والا۔ المارّ ذکرُہ: مذکورہ بالا، جس پر پہلے بھی گفتگو کی جا چکی ہے۔ تیّارٌ مستمرّ: ڈائریکٹ کرنٹ (بجلی)۔ موجاتٌ مستمرۃ: مسلسل موجیں، لہریں (فزکس)

مرأ: ا۔ مَرأَ ــ مَرءًا الرجلُ: کھانا۔ ــــ الطعامُ فلاناً: کھانے کا کسی کو نافع و مفید ہونا۔ ــــ مَراءَۃً الطعامُ: کھانے کا خوشگوار ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ ھَنأنی و مرأنی الطعامُ: کھانا مجھے خوشگوار ہوا۔ اگر ھنأنی نہ کہا جائے تو پھر أمرأنی کہا جائے گا۔ (باب افعال سے)۔ مَرِئَ ــ مَراءَۃً الطعامُ: کھانے کا خوشگوار ہونا۔ مَرأَ: زنانہ طرز کا ہونا (شکل اور باتوں میں)۔ مَرُؤَ ــ مَراءَۃً الطعامُ: کھانے کا خوشگوار ہونا۔ ــــ المکانُ: جگہ کا اچھی آب و ہوا والا ہونا۔ مَرّأَہ: کسی کو ھنیئاً مریئاً کہنا۔ کسی کو اچھی صحت کی دعا دینا۔ اَمرأَ

لطعام فلاناً: کھانے کا کسی کو نافع ومفید ہونا۔ استمرأ الطعام: کھانے کو مزیدار یا خوشگوار سمجھنا یا پانا۔ المَرأة: مرأ کا اسم مرہ: ایک بار کھانا، کھانے کا خوشگوار ہونا۔ جمع نساء و نسوة (من غیر لفظہ) عورت۔ المرئ: جمع مُرُؤ و امرئة: زخرہ ... ہو جاتا ہے۔ طعام مرئٌ: خوشگوار کھانا۔ کلاءٌ مرئیة: تازہ گھاس پات جو جلدی ہضم ہو جائے۔ هنیئاً مریئاً: خدا کرے یہ خوراک یا مشروب تم کو مفید ہو۔ المریئة: مرئ کا مؤنث: ارض مریئة: خوشگوار آب وہوا والی زمین۔

۲۔ مَرُؤ مُروءة: مروت والا ہونا۔ تمرأ: مروت والا بننا، مروت والا ہونا۔ کہا جاتا ہے: فلان یتمرأ بنا: فلاں شخص ہمیں ملامت اور عیب سے منسوب کر کے جواں مردی کا طلب گار ہے۔ المرء (میم کی پیش، زبر اور زیر کے ساتھ) انسان جمع رجال (من غیر لفظہ) مرؤن و مراة مرة بھی سننے میں آیا ہے۔ نسبت کے لئے بھی مرئی۔ امرؤ و امرأ جمع نساء و نسوة (من غیر لفظها) انسان ہمزہ وصل کی ر، ت آخری لفظی حرکت کے ساتھ: جاء امرؤ و رأیت امرأ و مررت بامرئٍ بہر حال اس کی پیش دینا یا زیر دینا جائز ہے۔ تصغیر میں الف وصل ساقط ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں۔ مُرَیْءٌ و مُرَیْئَةٌ امرء پر الف لام تعریف کا داخل نہیں ہوتا، کبھی کبھار امراة پر داخل ہو جاتا ہے۔ المُرُوئة: نخوت، جواں مردی، جواں مرد کی صفات مُرُوّة بھی کہا جاتا ہے۔ المرئة: بہادر، دلیر، شجاع، شریف۔

◯ مرأ و مرئ۔ و مَرُؤ مَراءة: (کھانے کا) خوشگوار، صحت بخش، صحت افزاء، مزیدار، خوش ذائقہ، لذیذ اور پسندیدہ ہونا۔ مَرُؤ مُرُوءة: مردانہ ہونا، مردمیت ہونا۔ مَرُؤ مَراءة: آب وہوا کا) صحت افزا، خوش گوار، فرحت افزا یا صحت بخش ہونا۔ اِسْتَمْرأ ۔ؕ: خوراک کو خوش گوار، صحت مند، صحت افزاء اور مزیدار پانا۔ ۔ؕ: سے لطف اندوز ہونا، کو مزیدار بنانا، چٹ پٹا بنانا، مرغوب بنانا۔ ۔ؕ: کو ہضم کر سکنا، کو پسند آنا، کو پہنچ کرنا، سے مسرت، لطف حاصل کرنا۔ اِمْرُءٌ و اِمْرأ و اِمْرُؤ (ال کے ساتھ) ایک مرد، شخص، انسان۔ یظن المرءُ: کوئی خیال کرے گا۔ اِمْرَأة: عورت، بیوی۔ المرأة المُسَلْسَلَة: ذات الکرسی ستاروں کا جھرمٹ (Andromeda)۔ مُرُوءة و مُرُوّة: مردانگی کا معیار، جواں مردی، شجاعت، بہادری، دلیری، بانکپن، دلاوری، صنف نازک کے لئے جانبازی، عالی ہمتی، فراخدلی، فیاضی، عزت نفس۔ مَرِئ: جواں مردانہ، مردانہ، مردصفت، صحت بخش، صحت افزا، ممد اخلاق، خوشگوار، فرحت افزا، تندرست۔ هَنِیئاً مَرِیئاً: اللہ کرے یہ تمھیں بہت فائدہ مند ہو، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس (خوراک) سے لطف اندوز ہوگے۔ مَرِئ جمع اَمْرِئة و مُرُوء: زخرا، حلقوم، گلا۔ مَرّاکُش و مَرّاکِش: مراکش (مغربی مراکش میں ایک شہر۔ (ملک) مراکش۔ مراکشی: صفت واسم۔

مرت: مَرَتَ ـ مَرْتاً الشیءَ: کو نرم کرنا۔ المَرْت (مص) جمع اَمْرات و مُرُوت و اماریت: سبزہ سے خالی بیابان۔ کہا جاتا ہے: ارضٌ مَرْتٌ: بے برگ و گیاہ زمین۔ رجلٌ مَرْتٌ: وہ شخص جس کے ابروؤں پر بال نہ ہوں۔ مرتُ الجسد: جسم پر بالوں سے خالی۔ غلام مرتُ العذاد: لڑکا جس کے رخساروں پر سبزہ نہ آیا ہو۔ المَرُوت: بے برگ گیاہ بیابان۔ المَرُوتة: زمین کی غیر زرخیزی۔ ارض مَمْرُوتة: تنگی زمین جس پر سبزہ نہ ہو۔

مرث: مَرَثَ ـ مَرْثاً: بھگونا۔ الشیءَ: کو نرم کرنا۔ الصبیُّ اِصبعهُ: بچہ کا انگلیاں چبانا۔ ثدیَ امه: ماں کے پستان چوسنا۔ الرجُلُ الرجُلَ: مرد کا مرد کو مارنا۔ الدواءَ فی الماء: کو پانی میں دوا بھگونا۔ التمرَ بیدہ فی الماء: کھجوروں کو تر کرنا، گیلا کرنا۔ مَرِثَ ـ مَرَثاً علی الخصام: جھگڑے میں صابر و بردبار ہونا صفت مَرِث و مِمْرَث جمع مَمَارِث۔ مَرَّثَ الثرید: ثرید کا چورا کرنا، ریزہ ریزہ کرنا۔

◯ مَرَثَ ـ مَرْثاً ہ: (اپنی انگلیاں) چوسنا، کاٹنا۔ ۔ؕ: کو نرم کرنا، مسلنا، بھینچنا، کچلنا، دبانا، نچوڑنا، کو ابال کر کچلنا۔ ۔ؕ: کو پانی میں بھگو کر نرم کرنا، کو تر کرنا۔

مرج: ۱۔ مَرَجَ ـ مَرْجاً الدابَّةَ: جانور کو چرنے کیلئے چراگاہ میں چھوڑنا۔ ـ ت الدابَّةُ: جانور کا چراگاہ میں چرنا۔ کہا جاتا ہے: مرج لسانهٗ فی اعراض الناس: اس نے اپنی زبان لوگوں کی مذمت اور غیبت کے لئے کھلی چھوڑ دی ہے۔ ـ الکذبَ: جھوٹ بولنے میں زبان کو کھلی چھوڑ دینا۔ ـ السلطانُ رعیَّتهٗ: سلطان کا اپنی رعایا کو دنگا فساد کرنے دینا۔ اَمْرَجَ الدابَّةَ: جانور کو جہاں چاہے چرنے کے لئے چھوڑ دینا۔ المَرْج (مص) جمع مُرُوج: چراگاہ۔

۲۔ مَرِجَ ـ مَرَجاً الامرُ: کام کو ضائع کرنا، اچھی طرح نہ کرنا۔ ـ الشیءُ بالشیءِ: کو سے ملانا۔ مَرِجَ ـ مَرَجاً الخاتمُ فی الاصبعِ: انگوٹھی کا انگلی میں ڈھیلا ہونا۔ ـ الامرُ والعهدُ والامانة والدینُ: کام، عہد، امانت اور دین کا خراب ہونا، فاسد ہونا۔ اَمْرَجَ الشیءَ: چیز کو ملانا۔ ـ العهدَ: عہد پورا نہ کرنا۔ المَارِج (فا): بہت بھڑکنے والا شعلہ۔ المَرّاج: باتوں میں اضافہ کرنے اور جھوٹ بولنے والا۔ المَرِیجُ جمع اَمْرِجة: سفید چھوٹی ہڈی جو سینگ کے درمیان ہوتی ہے۔ امرٌ مریجٌ: گڑبڑ اور بے ترتیب کام۔ سهمٌ مریجٌ: ملنے والا تیر۔ غصن مریجٌ: الجھی مڑی ہوئی شاخ۔ الممراج: بےڈھنگا، نااہل۔

۳۔ اَمْرَجَ ت الناقةُ: اونٹنی کا نامکمل بچہ گرانا۔ ناقة مِمراج: نامکمل بچے گرانے کی عادی اونٹنی۔

۴۔ المَرْجان واحد مَرْجانَة: چھوٹے موتی، مونگا۔ ربیع میں کھلنے والے چھوٹے پھولوں والا ایک پودا۔ ـ البیابانی: بیضوی شکل کے پتوں والا ایک پودا، سرخ ڈنڈیاں جو سمندر سے ہتھیلی کی انگلیوں کی طرح پھوٹتی ہیں۔

◯ مَرْج جمع مُرُوج: گھاس سے ڈھکا ہوا میدان۔ چراگاہ، مرغزار، سبزہ زار۔ هَرْج و مَرْج: افراتفری، الجھن، ابتری، پراگندگی، بے ترتیبی، ہنگامہ، شورش، بلوہ، دنگا، بےچینی، اضطراب، ہلچل۔ مَرَج: انتشار، پراگندگی، بے ترتیبی، ابتری، بدنظمی، ہنگامہ، فتنہ فساد، افراتفری، الجھن، شورش، بلوہ۔ مَرْجان و مُرجان (اسم جمع واحد مرجانة) چھوٹے موتی، مونگے۔ سَمَك مَرْجان: چین کی سرخ مچھلی جو نمائش کے لئے پالی جاتی ہے۔ مرجانی: مونگے کا، مونگے جیسا، مونگے جیسا سرخ۔ جزیرہ مرجانیة: مونگے کا جزیرہ (atoll)۔ شعاب مرجانیة: سمندر میں مونگے کی چٹانوں کا سلسلہ۔

مرح: ۱۔ مَرِحَ ـ مَرَحاً الرجُلُ: آدمی کا بہت خوش ہو کر اترانا، ناز سے چلنا صفت مَرِح جمع مَرحی و مَرَاحی و مَرِیح ج مِرِیحون۔ کہا جاتا ہے۔ لاتَمْرَح بِمرحُولك: اپنی شہرت کے متعلق اشارۃً کچھ نہ کہنا۔ اَمْرَحَہٗ: کو خوش کرنا۔ ـ الکلاءُ الفرسَ: گھاس کا گھوڑے میں جان ڈال دینا۔ المِراح: زندہ دلی، خوش طبعی، ترنگ، چہل، ریل پیل۔ مَرْحَی: کلمہ تعجب ہے۔ جو تیر اندازی کی کامیابی پر بولا جاتا ہے۔ اس طرح مَرْحَیًّا بھی۔ المرحَة: لوع۔ المَرُوح: شراب۔ چست گھوڑا۔ قوسٌ مَرُوحٌ: کمان جو تیر کو اچھی طرح چھوڑے۔ التمراحة: بہت خوش وشادمان۔ کہا جاتا ہے۔ هو تِلْعابَة تِمراحة: وہ بہت کھیلنے، مذاق کرنے اور چستی

والا۔ المِمْراح و المِمرح: چست و خوش۔

۲۔ مَرِحَ ـ مَرَحاً و مَرَحاناً السحابُ: بادل کا بارش برسانا۔ الزرعُ: کھیتی میں بالیاں آنا، خوشے نکلنا۔ ـــ ت عینُهٗ: آنکھ کا خراب ہونا اور پانی بہنا۔ ـــ العینُ بما نها و قذاها: آنکھ کا پانی بہانا اور کیچڑ پھینکنا۔ مَرَحَ المزادةَ الجدیدةَ: نئی مشک کو پانی سے بھرنا، تا کہ درز بند ہو جائے۔ ـــ البُرَّ: گیہوں صاف کرنا۔ المِمْراح: بہت آنسوؤں والی آنکھ، زمین جہاں جلد پودے اگیں۔

۳۔ مَرَّحَ المهرَ: بچھڑے کو سدھانا۔ المُمَرَّح (مفع)۔ کرمٌ مُمَرَّحٌ: ستون پر سے لٹکتی ہوئی انگور کی بیل۔

۴۔ مَرَحَ الرجلُ: بڑی جنگ میں شامل ہونا۔ المَرْحی: بڑی جنگ۔ (مادہ رحی)۔

۵۔ مَرَحَ الجلدَ: چمڑے پر تیل لگانا۔ کہتے ہیں: مَرَحت المرأةُ البیتَ تَمْرَحُهٗ مَرْحاً: عورت نے اپنے گھر کی زمین کی مٹی سے لپائی کی۔

۶۔ المِرحَة: خشک انجیروں وغیرہ کے گودام۔

۷۔ مَرْحَبَ فلاناً و به: کو مرحبا کہنا، خوش آمدید کہنا۔ ـــ اللّٰهُ فلاناً: اللہ کا کسی کو وسعت و فراخی میں رکھنا۔ ـــ ہٗ: کو وسعت کی طرف بلانا۔

○ مَرِحَ ـ مَرَحاً: مسرور، خوش، شاداں، خوش و خرم، شاداں و فرحاں، شاد، زندہ دل، خوش مزاج، بہت خوش، خوش دل، زندہ دلانہ، جوشیلا، شگفتہ خاطر یا ہشاش بشاش ہونا، محظوظ ہونا، باغ باغ ہونا، خوشی سے پھولنا، پھولے نہ سمانا، شادیانے بجانا، فخر کرنا، اترانا۔ سَرِحَ و مَرِحَ: من مانی کرنا، ظالمانہ طرز عمل اختیار کرنا، دندناتا پھرنا۔ مَرْحَی: شاباش! واہ واہ، بہت اچھے، مرحبا، بہت خوب۔ مَرْحَی بِ: کو شاباش۔ مِمْراح: خوش مزاج، خوش طبع، خوش دل، خوش و خرم، زندہ دل، ہنس مکھ، زندہ دل شخص۔ مَرْحَبَ ہٗ: کو خوش آمدید کہنا۔

مرخ: ۱۔ مَرَخَ ـ مَرْخاً جسدَہٗ بالدهن: کے جسم پر تیل ملنا۔ مَرِخَ ـ مَرَخاً العرفجُ: عرفج درخت کا لمبی شاخوں اور اچھے پتوں والا ہونا۔ صفت مَرِخ۔ مَرَّخَ ہٗ: کو تیل ملنا۔ ـــ و اَمْرَخ العجینَ: آٹے کو پانی سے پتلا کرنا۔ تَمَرَّخ بالدهن: خود پر تیل کی مالش کرنا۔ المَارِخ: فا۔ ماءٌ مارِخٌ: جاری یا رواں پانی، بہتا ہوا پانی۔ رجلٌ مارِخٌ: پانی بہانے والا۔ المَرْخ (مص): نرم پتلا درخت۔ المَرِیخ: بہت تیل لگانے والا۔ ـــ من الشجر: نرم و پتلا درخت۔

المَرُوخ: مرہم۔ المَرِیخ: بہت تیل لگانے والا۔ ـــ من الشجر: نرم و پتلا درخت۔

۲۔ مَرَخ ـ مَرْخاً: مذاق کرنا۔

۳۔ المَرِخ: احمق۔ المُرَّخ: وُم۔ المَرِیخ جمع اَمْرِخة: سینگ کے اندر کا چھوٹا سینگ۔ المِرِّیخ: احمق۔ (فلک): ایک سیارہ ستارہ جو سورج سے قریب ترین ہے۔ ثَوْرٌ اَمْرَخ: سرخ و سفید نقطوں یا پر دھبوں والا بیل۔ المَرْخاء: چستی کی وجہ سے تیز رو اونٹنی۔

○ مَرَخَ ـ مَرْخاً ہٗ: (جسم) کو تیل ملنا، کی مالش کرنا، سہلانا، پر لیپ کرنا۔ مَرَّخَ ہٗ: بمعنی مَرَخ۔ تَمَرَّخ: اپنے آپ کو تیل لگانا، تیل ملنا، تیل کی مالش کرنا، مرہم لگانا۔ مَرِخ: نرم، ڈھیلا، پلپلا، تھل تھل، جھریاں پڑا ہوا، ڈھیلا ڈھالا، پرشکن، پولا۔ مَرُوخ: تلا، ضماد، مرہم، تیل مالش کا روغن یا دوا، لیپ، سکون بخش دوا۔

مَرد: ۱۔ مَرَدَ ـ مَرْداً الغصنَ: ٹہنی کی چھال اتارنا۔ ـــ الشیءَ: کو نرم کرنا، صاف کرنا، کاٹنا۔ ـــ فلاناً: کو بے عزت کرنا۔ ـــ مُرُوداً: نافرمان اور سرکش ہونا، ہمسروں سے آگے نکلنا۔ ـــ علی النفاق و نحوہ: منافقت پر جمے رہنا۔ ـــ مَرَداً و مُرُودةً الغلامُ: لڑکے کا دیر تک بے ریش رہنا۔ مَرُدَ ـ مَرادةً و مُرُودةً: نافرمان اور سرکش ہونا، ہمسروں سے آگے نکلنا۔ مَرَّدَ تَمْرِیداً و تَمْراداً الغصنَ: ٹہنی کے پتے اتار دینا۔ ـــ البناءَ: عمارت کو ہموار و چکنا کرنا، لمبی کرنا۔ بناءٌ مُمَرَّدٌ: چکنی اور لمبی عمارت۔ تَمَرَّدَ: دیر تک بے ریش رہنا، سرکش ہونا۔ ـــ علی الناس: لوگوں سے سرکشی کرنا۔ ـــ الرجلُ: ہمسروں سے آگے نکل جانا، تکبر کرنا۔ المارِد (فا) جمع مَرَدَة و مارِدُون و مُرّاد: سرکش، بلند۔ بناءٌ مارِدٌ: بلند عمارت۔ المَرّاد و المُرّاد جمع مَرَادِید: گردن۔ المَرِید جمع مُرَداء: سرکش، خبیث، شریر۔ المِرِّید: سرکش۔ الاَمْرَد مونث مَرْداء جمع مُرْد: بے ریش جوان۔ فرسٌ اَمْرَد: گھوڑے جس کے ٹخنوں پر بال نہ ہوں۔ مُرْدٌ علی جُرُدٍ: ٹخنوں پر بالوں سے خالی گھوڑوں پر بے ریش جوان۔ المَرْداء جمع مَرَادِی: بے پتوں کا درخت، بنجر ریت، بنجر زمین۔

۲۔ مَرَدَ ـ مَرْداً الشیءَ فی الماء: کو پانی ملنا۔ ـــ الصبیُّ ثدیَ اُمّہٖ: بچہ کا پستان کو ہاتھوں سے چوسنا۔ ـــ الدابّةَ: جانور کو زور سے ہانکنا۔

۳۔ مَرَدَ ـ مَرْداً الملّاحُ السفینةَ: ملاح کا کشتی کو چپوؤں سے کھینا۔ المُرْدِیّ جمع مَرَادِیّ: چپو۔

۴۔ مَرَدَ ـ مَرْداً و مُرُودةً الرجلُ: دودھ میں بھگوئی ہوئی کھجوریں کھانے کا عادی ہونا۔ المَرِید: دودھ میں بھگو کر نرم کی ہوئی کھجور۔

۵۔ مَرَّدَ للحمام تِمْراداً: کبوتروں کے لئے گھونسلا بنانا۔ التِّمراد جمع تَمَارِید: کبوتروں کا گھونسلا۔

۶۔ تَمَرَّدَ الرجلُ: سرکشوں کے پاس آنا۔

۷۔ المَرْدَقُوش (ن): ایک خوشبودار باریک پتوں والی بوٹی۔ زعفران (فارسی لفظ)۔

○ مَرَدَ ـ مُرُوداً و مَرُدَ ـ مَرادةً و مُرُودةً: سرکش ہونا، نافرمان ہونا، منہ زور ہونا۔ ـــ علی۔ کے خلاف بغاوت کرنا، ہتھیار اٹھانا، سے برگشتہ ہونا۔ مَرَدَ ہٗ: درخت کے پتے اتارنا۔ ـــ ہٗ: عمارت پر پلستر کرنا، کہگل کرنا، گارے کا پلستر کرنا، مسالہ چڑھانا، تہہ چڑھانا۔ تَمَرَّدَ: سرکش ہونا، نافرمان ہونا۔ ـــ علی: کے خلاف بغاوت کرنا، ہتھیار اٹھانا، سے برگشتہ ہونا: گستاخ، بے ادب، سرکشیا مغرور ہونا، متکبر ہونا، دیدہ دلیر ہونا، زبردست۔ دبنگ یا تحکم پسند ہونا۔ مُرْدِیّ جمع مَرادِیّ: کشتی کھینے کا بانس، چپو۔ مَرّاد و مُرّاد جمع مَرارِید: گردن، گدی۔ مَرِید جمع مُرَداء: سرکش، نافرمان، منہ زور۔ تِمراد جمع تَمارِید: کابک۔ اَمْرَد م مرداء جمع مُرْد: بے ریش۔ پتوں کے بغیر درخت، خشک، مرجھایا ہوا۔ تَمَرُّد: سرکشی، نافرمانی، عدول حکمی، بغاوت، حکومت کے خلاف باغیانہ تحریک، غدر۔ مارِد جمع مارِدُون و مَرَدَة و مُرّاد: سرکش، نافرمان، نافرمانی پر مبنی، سرکشانہ متمردانہ، باغی، آسیب، بھوت پریت، بدروح، خبیث روح، شریر، بدذات، خونخوار، ظالم، جن، دیو، عفریت، بہت بڑا، بہت طاقت ور۔ مُتَمَرِّد: سرکش، نافرمان، باغی، منہ زور۔

مرز: ۱۔ مَرَزَ ـ مَرْزاً ہٗ: کو کاٹنا، کی چٹکی لینا۔ ـــ الرجلَ: کو ہاتھ سے مارنا۔ مارَزَ مُمارَزةً ہٗ: کی مشق کرنا، کی کوشش کرنا۔

۲۔ مَرَزَ ـ مَرْزاً ہٗ: کو کاٹنا قطع کرنا۔ ـــ الرجلَ: پر عیب لگانا۔ ـــ الشیءَ: کو کاٹنا۔ اِمْتَرَزَ عرضَهٗ: پر عیب لگانا۔ ـــ شریکَهٗ: شریک کا مال اپنے مال سے علیحدہ کرنا۔ ـــ من مالِهٖ مَرْزةً: کے مال سے کچھ لے لینا۔ المَرْزة و المِرْزة: ٹکڑا۔ عِرضٌ مَرِیزٌ: بدنامی۔

۳۔ المَرْزَتان: کان کی لو سے اوپر کا ابھرا ہوا حصہ۔ المُرْزة (ح): ایک شکاری پرندہ جو چوہے اور خرگوش کا شکار کرتا ہے۔ اسے عُقَیب بھی کہتے ہیں۔

۴۔ المَرْزُبان جمع مَرَازِبة عند الفرس: سردار۔

الْمَرْزبة عندهم: سرداری۔

۵۔ الْمَرْزَنْجُوش: ایک بوٹی کا نام (فارسی لفظ)۔

مَـرْزُبـان جمع مَـرَازِبَة: خلیفہ، نائب، صوبائی گورنر، قدیم ایرانی صوبیدار، لٹیرا اور جابر صوبہ دار (satrap)۔

مرس: ۱۔ مَرَس ـمَرْساً الدواءَ: دوا کو پانی میں بھگو کر ملنا تا کہ اس کے اجزا پانی میں تحلیل ہو جائیں۔ ــــ الصبیُّ اصبعَهُ: بچے کا انگلیاں منہ میں ڈال کر چوسنا۔ ــــ یدَهُ بـالـمـنديل: ہاتھ رومال سے یا تولیہ سے پونچھنا۔ مَرِسَ ـمَرَسًا الرجُلُ: کام سلجھانے میں سخت ہونا۔ مَـارَسَ مِـرَاسـاً و مُمَارَسَةً الامرَ: معاملہ سے نبٹنا، پر کامل توجہ کرنا، میں محنت اور کوشش کرنا، کو شروع کرنا۔ تمَرَّسَ بالشیءِ: سے رگڑنا، کو مارنا ــبالطیب: خوشبو میں لتھڑنا۔ ــبالرجُلِ: ایذا دینے کے لئے، اس کے درپے ہونا۔ ــبدِینِهِ: دین سے کھیلنا۔ ــبالنوائب و الخصومات: حوادث اور جھگڑوں کا خوگر و عادی ہونا۔ تَـمَـارَسَ القومُ فی الحرب: جنگ میں ایک دوسرے کو مارنا۔ اِمْتَرَسَ بالشیءِ: سے رگڑنا۔ ــالخطباءُ والألْسُنُ فی المخصومة: جھگڑوں میں خطیبوں اور زبانوں کا کٹ حجتی کرنا۔ الْمَرْسُ (مص): لگاتار چال۔ المَرِس جمع اَمْـرَاس: کام میں سخت محنتی، جنگ آزمودہ۔ کہا جاتا ہے: هـم عـلـی مَرِس واحد: وہ ایک ہی اخلاق کے ہیں۔ المَرَسَة جمع مَرَس و جج أَمْرَاس: رسی۔ أمْرَاسُ المرکب: سواری کی رسیاں۔ المِراس والمَراسة: شدت، قوت۔ کہا جاتا ہے: هو سهلُ المِرَاس: وہ نرم مزاج ہے۔ اس کے مقابلہ میں کہتے ہیں: صعبُ المِراس۔ المَرَّاس: بہت سختی والا۔ کہا جاتا ہے: لیلةٌ مَرَّاسَةٌ: سخت تھکا دینے والی رات۔ المَرِیْس: پانی میں بھگوئی ہوئی کھجوریں وغیرہ۔

۲۔ مَرَسَ ـمَرْساً حبلُ البَکْرة: اتر کر چرخ کی رسی کا ایک طرف سے گر جانا۔ مَرِسَ ـمَرَسًاً ت البکرةُ: رسی کا چرخی اور اِدھر اُدھر کی لکڑی کے درمیان پھنسا ہونا۔ مَرِست حِبالُهُ: اس کے معاملات الجھ گئے۔ اَمْرَسَ حبلَ البُکرَةِ: چرخی کی رسی کو دوبارہ اس پر چڑھانا۔ المَرِس جمع أَمْرَاس: چرخی سے اتری ہوئی رسی۔ المَرُوس: چرخی جس سے رسی ایک طرف گر گئی ہو۔

۳۔ المرسَنْك: جلا ہوا رانگا جو بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے: فلانٌ اثقل من المَرسَنْك: فلاں مرسنگ سے بھاری ہے۔

۴۔ المَارِسْتَان و المَارَسْتان جمع مَارِسْتَانات: ہسپتال۔ شفاخانہ۔

مَرَّسَ ـمَرْساً (ہ): کو (پانی میں) بھگونا، بھگو کر نرم کرنا۔ مَـارَسَ ہ: کی مشق کرنا، کو کرتے رہنا، میں لگے رہنا، کو حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرنا، کو کرنا (جیسے وکالت کرنا، ڈاکٹری کرنا وغیرہ) کا کام کرنا، کو (حکم کو) بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، کی تکمیل کرنا (وسائل کو) کام میں لانا، میں محنت کرنا، کی دھن میں لگے رہنا، پر کامل توجہ کرنا، میں حصہ لینا، میں شریک ہونا، کو اختیار کرنا، کو آزما کر دیکھنا، (کرنے) کی کوشش کرنا۔ تَمَرَّسَ ب: سے رگڑ کھانا، پر ملنا، سے تکلیف اٹھانا، سے سخت اختلاف ہونا، (کوئی عہدہ) چلانا، کوئی پیشہ اختیار کرنا، کے ساتھ کام کرنا، سے عملی رابطہ میں ہونا، سے متعلق ہونا، سے وابستہ ہونا، سے فی الواقع متعلق ہونا، سے نبٹنا۔ تَمارَسَ: ایک دوسرے سے لڑنا، جدوجہد کرنا، سے مسابقت کی سعی کرنا یا سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ مَـرُّس: کھیل جو تمام چالیں چل کر جیتا جائے۔ مَـرِس جمع أَمْـرَاس: آزمودہ کار، پختہ کار، تجربہ کار، مشاق۔ مَـرَسَـة جمع أَمْـرَاس: رسی، ڈوری، طناب، تار، مضبوط رسا، موٹا رسہ (جہاز کا)۔ مِـرَاس و مَرَاسة: طاقت، قوت۔ سهل المراس: اثر پذیر، تاثر پذیر، قابو میں آجانے والا، آسان، جو سنبھالا جا سکے، فرماں پذیر، مطیع، اطاعت شعار، حسب ہدایت (یا مرضی کے مطابق) کام کرنے والا۔ شَـدِیدُ المراس یا صَعْبُ المراس: نااثر پذیر، قابو میں نہ آنے والا، آسانی سے قابو میں نہ آنے والا، اودھم مچانے والا، سرکش۔ صعوبةُ المراس: خودسری، سرکشی، آسانی سے قابو میں نہ آسکنا، بغاوت، انحراف، تمرد، سرتابی، ضد، ہٹ۔ مَـرِیسَـه: بیئر (شراب) کی ایک قسم۔ مَرِیسی: جنوب کی گرم ہوا۔

مرش: مَرَشَ ـمَرْشاً وجهَهُ: کا چہرہ نوچنا، کھرچنا، پر منہ سے کاٹنا، کی چٹکی بھرنا۔ ــہُ: کو گفتگو سے ایذا دینا۔ ــالماءُ: پانی بہنا۔ ــالحائطَ عند العامة: دیوار کو بجھے ہوئے چونے سے لیپنا۔ عوام اسے طَـرَشَ الـحـائـط بھی کہتے ہیں۔ اسم مرش اور طرش ہے۔ اِمْتَرَشَ الشیءَ: کو اچک لینا، کھینچنا، جھپٹ لینا، اکٹھا کرنا۔ ــــلعیاله: اہل و عیال کے لئے کمانا۔ المَرْش (مص) جمع مُرُوش و أَمْرَاش: بارش سے صاف کی ہوئی زمین، بارش سے جلد بہنے والی زمین، دامن کوہ جس سے پانی بہے۔ الأَمْرَش م مَرْشَاء جمع مُرْش: بہت شریر۔ المَرْشَاء: ہر طرح کی گھاس جڑی بوٹیوں اور پودوں والی زمین۔ الـمَرَّاش: بہت کمانے والا۔ ــــعند العامة: دیواروں پر چونا کرنے والا۔ اسے طراش بھی کہتے ہیں۔ التَمْرِیش: تھوڑی بارش۔

مَرْسِیلیَا: (جنوب مشرقی فرانس کی ایک بندرگاہ کا نام) مَرْسِین: مہندی، حنا (myrtle)۔ مَرَشَ ـ مَرْشاً ہ: کو نوچنا، کھرچنا، چھیلنا، پر ناخن مارنا، پنجہ مارنا، خراش ڈالنا۔

مَرْشال: (فیلڈ) مارشل (field) marshal۔

مرص: مَرَصَ ـمَرْصاً الثدْیَ و نحوَهُ: پستان انگلیوں سے دبانا۔ مَرِصَ ـمَرَصاً الرجُلُ: سبقت کرنا، آگے نکلنا۔ تـمَـرَّصَ القشرُ عن الشعیر و نحوه: جو وغیرہ سے چھلکا اترنا۔ المَرُوص: تیز رفتار اونٹنی۔

مرض: ۱۔ مَرِضَ ـمَرَضاً و مُرْضاً: بیمار ہو جانا۔ صفت: مَرِض و مَرِیض و مَارِض۔ مَرَّضَ ہُ: کا علاج کرنا، تیمارداری کرنا، کو مریض بنانا۔ ــفی الامر: کام میں سستی و کاہلی کرنا، کو اچھی طرح نہ کرنا۔ أَمْرَضَ: مریض ہونا۔ امْرَضَ اللّٰہ فلاناً: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیمار کرنا۔ ــــہُ: کو مریض پانا۔ کہا جاتا ہے: أَتَیتُ زیداً فـامرضتُهُ: میں زید کے پاس آیا تو اسے بیمار پایا۔ ــ اجفانَهُ: پلکیں نیچی کرنا۔ ــ القومُ: بیمار جانوروں والا ہونا۔ تمَرَّضَ: کام میں کمزور ہونا۔ تَمَارَضَ: بیمار بننا، بیماری کا بہانہ کرنا۔ ــفی امره: کام میں کمزور ہونا۔ المَرَض والمَرْضُ جمع أَمْرَاض: بیماری، طبیعت کی خرابی۔ المَرِض جمع مِرَاض: بیمار، کہا جاتا ہے: به مَرْضَةٌ شدیدَةٌ: وہ سخت بیمار ہے۔ المَرِیض جمع مَرْضَی: بیمار علیل کہا جاتا ہے: بَدَنٌ مـرِیض: بیمار بدن۔ قـلـبٌ مـرِیض: دین کی کمی والا۔ رایٌ مریض: کمزور رائے۔ عینٌ مَرِیضَةٌ جمع مِراض و مرضَی: کمزور آنکھ۔ ریحٌ مریضةٌ: کمزور وسست ہوا۔ شمسٌ مریضَة: سورج جس کی روشنی بادل وغیرہ کی وجہ سے کمزور ہو۔ لیلةٌ مریضةٌ: وہ رات جس میں ستارے نظر نہ آئیں۔ ارضٌ مریضة: بسنے والوں سے تنگ زمین۔ بہت فتنہ و فساد اور جنگ و جدل والی زمین، چٹیل زمین۔ الـمِـمْرَاض: بہت بیماریوں والا۔ الـمُـمَرِّض م مُـمَرِّضَة ھا: مرد نرس۔ ہسپتال کا خادم، ایمبولنس کا آدمی، فسٹ ایڈ والا، ڈاکٹر کا مددگار۔ الـمُـمَرِّضَة: ہسپتالوں وغیرہ کی نرس۔ المَمْرُوض والمُتَمَرِّضُ: بیمار۔

۲- مَرَّضَ البرَّ: گیہوں بکھیرنا۔

۳- أمْرَضَ الرجُلُ: حاجت براری کے قریب ہونا۔

مَرِضَ - مَرَضاً: بیمار ہونا یا ہو جانا، بیمار پڑنا۔ مَرَّضَ ہٗ: کو بیمار کر دینا، کی تیمارداری کرنا۔ اَمْرَضَ ہٗ: کو بیمار کر دینا۔ تَمَرَّضَ: کمزور ہونا، علیل ہونا، بیمار ہونا۔ تَمَارَضَ: بیمار بننا، بیماری کا بہانہ کرنا، کام سے بچنے کے لئے جھوٹ موٹ بیمار بننا۔ مَرَضُ البیاضِ الدقیقی: پھپھوندی۔ مرض عَصَبی: اعصابی بیماری۔ مرض عقلی: دماغی بیماری۔ مرض فَحمی: پت روگ۔ پتوں کو جھلس دینا۔ مرض فرنجی: آتشک (syphilis)۔ مرض مُعْدٍ: چھوت والی، متعدی اڑتی یا لگنی بیماری۔ امراض باطنیہ: اندرونی بیماریاں۔ امراض سِرِّیَة: جماعی امراض۔ اَمْراضٌ صدریہ: سینے کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں۔ مَرَضِی: بیماری سے متعلق، غیر صحت مندانہ، مرضیاتی۔ مریض نفسی: نفسیاتی مریض۔ تمریض: تیمارداری، نرسنگ۔

مرط: ۱- مَرَطَ - مَرْطاً الشعرَ او الریشَ: بال یا پر نوچنا۔ ــــ بسلحہ: پاخانہ کرنا۔ ــــ ت المرأۃُ بولدھا: بچہ جننا۔ مَرِطَ - مَرَطاً: بے بال یا کم بالوں والا یا نوچے ہوئے بالوں والا ہونا۔ مَرَّطَ الشعرَ او الریشَ: بال یا پر نوچنا۔ ــــ بسلحہ: پاخانہ کرنا۔ مَارَطَ مُمَارَطَةً ہٗ: ایک دوسرے کے بال نوچنا۔ اَمْرَطَ الشعرُ: بالوں کا نوچے جانے کے قریب ہونا۔ ــــ ت الناقۃُ وَلَدَھا: اونٹنی کا نامکمل بچہ گرانا، اونٹنی کا بچہ گرانا جب ابھی اس کے بال بھی نہ اگے ہوں۔ ــــ ت النخلۃُ: درخت خرما کا کچی کھجوریں گرانا۔ تَمَرَّطَ الشعرُ: بالوں کا گرنا۔ ــــ السھمُ: تیر کا پروں سے خالی ہونا۔ اِمْتَرَطَ الشیءَ: کو جھپٹ لینا۔ اِمَّرَطَ و انْمَرَطَ الشعرُ: بالوں کا گرنا۔ المُرْطُ جمع اَمْراط و مِراط من السھم: بے پر تیر۔ کہا جاتا ہے: السھمُ مُرُطٌ: بے پر تیر۔ المُراطَۃ: نوچتے ہوئے یا کنگھی کرتے ہوئے گرنے والے بال۔ الأمْرَط م مَرْطَاء جمع مُرْطٌ: جسم بھنوں اور آنکھوں پر کم بالوں والا، نوچے ہوئے بالوں والا بھیڑیا، چور۔ سھمٌ اَمْرَطُ: بے پر تیر۔ شجرۃٌ مَرْطاء: بے پتوں کا درخت۔ سھمٌ مَرِیطٌ و مِراط: بے پر تیر۔

۲- مَرَطَ - مَرْطاً و مُرُوطاً الرجُلُ: جلدی کرنا۔ أمْرَطَت الناقۃُ: اونٹنی کا تیز چلنا اور آگے بڑھنا۔ فرسٌ مَرَطَی: تیز رو گھوڑا۔ المُرُوط: تیز چلنا اور دوڑنا۔ المِمْرَطَة جمع مَمَارِط من النوق: تیز رفتار اونٹنی۔

۳- مَرَطَ - مَرْطًا و مُرُوطًا فلاناً: کو پناہ دینا۔ مَرْطًا و مَرَّطَ الشیءَ: کو جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔

۴- مَرَّطَ الثوبَ: آستین چڑھانا۔ المِرْط جمع مُرُوط: ہر ان سلا کپڑا۔ اونی یا ریشمی چادر۔

مَرَطَ - مَرْطًا ہٗ: (بال) نوچنا، اکھیڑنا، کھینچنا۔ مَرَّطَ ہٗ بمعنی مَرَطَ ہٗ۔ تَمَرَّطَ: بالوں کا گرنا۔ مَرِیط و اَمْرَطَ م مَرْطاء جمع مُرْط: بے بال۔

مرع: ۱- اَمْرَعَ - مَرْعًا رأسَہ بالدھن: سر پر تیل ملنا۔ شَعْرَہٗ: بالوں میں کنگھی کرنا۔ اَمْرَعَ راسَہ بالدھن: سر پر خوب تیل ملنا۔ المُرْعَة و المِرَاع: چربی۔

۲- مَرِعَ - مَرَعًا الرجُلُ: آدمی کا خوش حال ہونا۔ آسودہ ہونا۔ ــــ المکانُ: جگہ کا سرسبز ہونا۔ مَرُعَ - مَرَاعَةً الرجُلُ: آدمی کا خوش حال و آسودہ حال ہونا۔ ــــ المکان: جگہ کا سرسبز ہونا۔ أمْرَعَ المکانُ: جگہ کا سرسبز ہونا۔ ــــ القومُ: لوگوں کا سرسبز جگہ پانا۔ ضرب المثل: أمْرَعْتَ فانْزِل. تو نے سرسبز جگہ پالی ہے یہیں اتر پڑ۔ یعنی تم نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے۔ تَمَرَّعَ: گھاس طلب کرنا۔ المَرْعُ جمع اَمْرُع و اَمْرَاع: گھاس۔ مکانٌ مَرِعٌ: سرسبز جگہ۔ رجُل مَرِعٌ: گھاس یا سبزہ کا خواہاں۔ المُرَعَة و المَرَعَة جمع مُرَع و مِرْعان (ح): ایک قسم کا تیتر۔ مکانٌ مَرِیع جمع أمْرَاع و اَمْرُع: سرسبز جگہ۔ کہا جاتا ہے: مَرِیع الجناب: بہت فیاض۔ الأُمْرُوعة جمع اَمَارِیع: سرسبز زمین۔ المِمْرَاع: سرسبز۔ مَمَارِیعُ الارض: زرخیز زمینیں۔

۳- تَمَرَّعَ: جلدی کرنا۔ اِنْمَرَعَ فی البلاد: ملک میں گھس جانا۔

۴- المِرْعِزّ و المِرْعِزَّی و المَرْعِزَّی و المِرْعِزاء و المَرْعِزَاء: بکری کے بالوں کا نیچے کا رواں۔ نرم پشم

مَرَعَ - مَرْعًا ہٗ: پر ملنا، تیل ڈالنا یا مالش کرنا۔ مَرْع جمع اَمْرُع و اَمْرَاع: چراگاہ، چراگاہ کی گھاس۔ مُرْعَة: تیل، چکنائی، گریس۔ مَرِیع: زرخیز، بارآور (مٹی)۔ مِمْرَاع: پھولتا پھلتا، مالا مال اور کامران (شہر)۔

مرغ: ۱- مَرَغَ - مَرْغًا البعیرُ: اونٹ کا جھاگ گرانا۔ اَمْرَغَ: سوتے میں منہ کے ایک طرف سے تھوک بہنا۔ تَمَرَّغَ الحیوانُ: جانور کا منہ سے لعاب بہانا۔ المَرْغ (مص): لعاب، لعاب دہن۔ المُرْغَة: ایک آنت جس کو اعور کہتے ہیں۔

۲- مَرَغَ - مَرْغًا الحیوانُ العُشبَ: جانور کا گھاس کھانا۔ ــــ فی العشبَ: گھاس چرنا۔ مَرِغَ - مَرَغًا عِرْضُہٗ: کی عزت کا خراب و داغ دار ہونا۔ مَرَّغَ تَمْرِیغًا و تَمْرَاغَةً فی التراب: کو خاک میں لوٹانا۔ ــــ العِرضَ: عزت کو داغدار کرنا۔ ــــ رأسَہٗ: سر کو خوب تیل پلانا۔ مَارَغَ ہٗ: کو فریب دینا۔ ــــ ہٗ بالتراب: کو مٹی چپٹا دینا۔ اَمْرَغَ: بہت بکواس کرنا۔ ــــ العجینَ: آٹے میں پانی ملا کر اس کو پتلا کرنا۔ ــــ عِرضَہٗ: کی عزت کو داغ دار کرنا۔ تَمَرَّغَ فی التراب: مٹی میں لوٹنا۔ ــــ فی الامر: کسی کام میں تردد کرنا۔ ــــ علی فلان: دیر لگانا۔ ــــ الرجُلُ: آراستہ ہونا، قریب ہونا، درد سے پہلو بدلنا۔ ــــ فی النعیم: آسودہ حال ہونا، آسائشوں میں لوٹنا۔ ــــ ت السائمۃ: جانور کا کسی جگہ دیر تک چرتے رہنا۔ المارِغ: احمق۔ المُرْغ: تیل کی اچھی طرح مالش، سبزہ زار۔ المَرْغَة: مَرَغ کا اسم مرۃ، سبزہ زار۔ المَرِغ من الشَعَر: بہت جذب کرنے والے بال۔ المَرَاغ و المَرَاغَة و المُتَمَرَّغ: وہ جگہ جہاں جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہو۔ الأمْرَغ م مَرْغاء جمع مُرْغ: رذیل باتوں میں لگا رہنے والا۔

۳- تَمَرَّغَ الرجُلُ: سیر کرنا۔

مَرَّغَ ہٗ: کو خاک میں لوٹانا، پر ملنا، کو ملنا۔ أمْرَغَ ہٗ: کو گندہ کرنا، خراب کرنا، میلا کرنا، آلودہ کرنا، داغ لگانا۔ تَمَرَّغَ: لوٹنا، رہنا (خصوصاً خاک میں، مٹی میں)، پس و پیش کرنا۔

مَرْغَرِین: مکھن جیسی چیز۔ نقلی مکھن۔

مُرْفِین: مارفیا۔ افیون کا ست (morphine)۔

مرق: ۱- مَرَقَ - مَرْقًا القِدرَ: ہانڈی میں شوربا زیادہ کرنا۔ أمْرَقَ القدرَ: ہانڈی میں شوربا زیادہ کرنا۔ ــــ الجلدَ: کھال سے اون اکھیڑنا۔ ــــ الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ ــــ ہٗ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ ــــ مُرُوقًا السھمُ من الرمیَّة: تیر کا شکار پر لگ کر پار ہونا۔ ــــ من الدین: گمراہی یا بدعت کی وجہ سے دین سے خارج ہونا۔ عوام کہتے ہیں: مرق فلانٌ: ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانا۔ مَرِقَ - مَرَقًا ت البیضۃُ: انڈے کا خراب ہو کر پانی ہو جانا۔ ــــ تِ النخلۃُ: کھجور کے درخت کا پھل بڑا ہو کر گر جانا۔ مَرَّقَ: گانا۔ ــــ القِدرَ: ہانڈی میں شوربا زیادہ کرنا۔ ــــ الجلدُ: کھال کا اون اکھیڑنے کے قابل ہونا۔ ــــ تِ النخلۃُ: کھجور کے درخت کے پھل کا بڑا ہو کر گر جانا۔ اسم المَرْق۔ تَمَرَّقَ الشعَرُ: بال نوچے

جانا یا بیماری وغیرہ سے بالوں کا گرنا۔اِمْتَرَقَ الشیءُ: جلدی سے گزر جانا۔۔۔السیفَ من غمده: تلوار سونتنا۔اِنْمَرَقَ و اِمَّرَقَ السهمُ: تیر کا چھید کر پار ہو جانا۔۔۔الشَعَرُ: بالوں کا گرنا۔المَارِق: ہر چیز جو پار نکل جائے۔۔۔جمع مَارِقُون و مُرَّاق: دین سے نکل جانے والا۔المَارِقَةُ: مَارِق کا مؤنث۔خوارج۔المَرْق (مص) جمع اَمْرَاق: دھنی ہوئی اون۔بدبودار اون یا کھال۔کہا جاتا ہے:اصابه ذلك في مَرْقِكَ: اسے یہ کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔المِرْق: بدبودار اون یا کھال۔المَرَق و المَرَقة (ط): شوربا۔المُراقَة: اکھیڑی ہوئی اون۔المَمْرَق نکلنے کی جگہ، چھت کا روشن دان کھڑکی۔لحمٌ مُمَرَّقٌ: چربی دار، چربیلا یا چکنا گوشت۔

۲۔تَمَرَّقَ الثوبُ. کپڑے کا عُصْفُر سے رنگ جانا۔المُرَيِّق و المُرَيق. عُصْفُر (کسم کا پودا، پھول یا رنگ(safflower)۔

مَرَق ـمُرُوقًا من. کسی چیز یا شخص کو چیر کر نکل جانا۔کے آر پار ہو جانا (خصوصاً تیر کا)، میں سے جانا یا گزر جانا۔: تیزی سے بڑھنا، تیزی سے گزرنا، تیزی سے آنا یا جانا، جلدی چلے جانا، بے تحاشا دوڑنا، بھٹک جانا (تیر کا) ہٹ جانا، منحرف ہونا۔من الدین: دین چھوڑ دینا، دین سے قطع تعلق کرنا۔مَرَقَ السهمُ: تیر گزر گیا مراد معاملہ ختم ہوا، طے ہو گیا۔مَرَق و مَرَقَة: شوربا، یخنی۔مُرُوق: بھٹکنا، انحراف، ارتداد، الحاد، سرتابی، برگشتگی، روگردانی، غداری، بیوفائی، سرکشی۔مُرُقي. تونس میں پیشہ ور قاریوں کا عرفی نام۔مَارِق جمع مُرَّاق و مَرَقَة: بھٹکنے والا، مرتد، ملحد، تارک دین، منحرف، منکر، ابن الوقت، بھگوڑا، مذہب کے مسلمہ عقائد کا مخالف، بدعتی، خارجی۔مُمَارِق: گستاخ، بے ادب، سرکش، بے تمیز۔

مرك ۱۔مَرَّكَ هُ. پر تجارتی مارکہ لگانا۔المارِكة مارکہ۔تجارتی نشان۔

۲۔المَرْكِيز مارکوس(marquis)۔(ڈیوک اور ارل کا درمیانی خطاب نواب (دوسرے درجے کا بڑا خطاب)

مرم: البِرميس (ح): گینڈا۔

مرن ۱۔مَرَنَ ـمُرُونَةً و مُرُونًا و مَرَانَةً: ملائم اور سخت ہونا۔۔۔ت یدهُ علی العمل و وجهه علی الامر: کام سے ہاتھ سخت ہونا، چہرہ پر سختی آنا۔۔۔مُرُونًا و مَرَانَةً علی الشيء: کا عادی ہونا، سے مانوس ہونا، مشق سے ملائم اور نرم ہونا۔۔۔مَرَّنَ الجلدَ کھال کو نرم کرنا۔۔۔به الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔مَرَّنَ الشيءَ: کو نرم کرنا۔۔۔فلانًا علی الامر. کو کام کا عادی بنانا۔۔۔به الارضَ: کو زمین پر پٹک دینا۔عوام کہتے ہیں:مَرَّنَ الشيءَ: کو پہلی بار استعمال کرنا۔تَمَرَّنَ: دانا، وزیرک بننا۔۔۔علی الشيء: کا عادی ہونا۔المَارِن (فا) جمع مَوَارِن: ناک کا کنارا، یا اس کی مرمری ہڈی۔رُمْحٌ مَارِنٌ: سخت اور ہموار نیزہ۔المَرْن (مص) جمع اَمْران: نرم چمڑا۔ایک قسم کا لباس، چادر، پوستین، خوش آمدید جانب پہلو۔مَرَنا الانف: ناک کے دونوں پہلو۔اَمْرانُ الذراع: بازو کا پٹھا۔المَرِن: ملائم۔شور وغل، لڑائی، عادت، خُلق۔کہا جاتا ہے:هم علی مَرِنٍ واحدٍ: وہ یکساں اخلاق والے ہیں) حالت، کہا جاتا ہے: مازال ذلك مَرِني: میری حالت وہی ہے۔المُرَّان واحد مُرَّانة: ٹھوس لچکدار نیزے۔وہ درخت جس سے نیزے بنائے جاتے ہیں۔التَمْرِين (مص) عند المدرسين مشق جو طلبہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔تربیت، ٹریننگ۔

۲۔مَرَنَ ـمَرْنًا من عدوِّهِ: دشمن سے بھاگ جانا۔

۳۔تَمَرَّنَ: مہربان ہونا۔المَرْن جمع اَمْران: عطیہ، عطا۔

۴۔تَمَارَنَتِ الناقةُ: اونٹنی کا دودھ دینے سے رک جانا۔

۵۔المَيْرون عند النصارىٰ. متبرک تیل جو مذہبی رسوم میں ملا جاتا ہے۔(holy chrism)(یونانی لفظ ہے)۔

مَرُنَ ـمَرَانَةً و مُرُونًا و مُرُونَة: لچک دار ہونا، نرم ہونا، ملائم ہونا، خم کھانے والا ہونا، جھکنے والا ہونا، اثر پذیر ہونا، سکڑنے پھیلنے والا ہونا۔۔۔مُرُونا و مَرَانة علی: کا عادی ہونا یا ہو جانا۔مَرَّن هُ: کو تربیت دینا، ٹریننگ دینا، کی سختی سے تربیت کرنا۔۔۔ه علی: کو کا عادی بنانا۔تَمَرَّن علی: کا عادی ہو جانا، کی مشق کرنا، کی پریکٹس کرنا، کی ٹریننگ لینا، میں مشاق ہونا، ٹرینڈ ہونا، ماہر ہونا، سخت تربیت دیا جانا۔مَرِن: لچک دار، نرم، ملائم، خم کھانے والا، جھکنے والا، سکڑنے پھیلنے والا، سانچے میں ڈھلنے والا، دبنے والا، پلپلا، لچکیلا، وسعت پذیر، بڑھانے یا پھیلانے کے قابل، فرمانبردار، مطیع، دبنے والا، بات مان لینے والا۔مَرَانة و مُرُونَة: لوچ، لچک، اثر پذیری، نرمی، جھکنے کی صلاحیت، اصلی حالت پر آجانے والی خصوصیت، ملائمت، تربیت، پذیری، ڈھل جانے کی صلاحیت، صورت پذیری، چستی، تیزی، پھرتی، تیز فہمی، چابکدستی، سبک رفتاری، ابھرنے کی قوت، قلا بازی، الٹی زقند۔تَمْرِين جمع تَمْرِينات و تَمَارِين. مشق، پریکٹس، ٹریننگ، ملٹری ٹریننگ، ڈرل، عملی تجربہ، مہارت، ہنر مندی، حسن تدبیر، تیاری کرانے والی ٹریننگ، آزمائشی تقرر (کا عرصہ) شاگردی، نوآموزی۔تَمْرِين ابتدائي: بنیادی ٹریننگ۔تمارينُ جندية او تمرينات عسكرية: فوجی مشقیں، فوج یا بحری بیڑے کی منصوبہ کے مطابق نقل وحرکت۔تمرينُ الزيادة: اتالیقی coaching, tutoring زائد ڈرل (فوجی)۔تمرينات رِياضية: ورزشی مشقیں، کسرتیں۔تحت التمرين: زیر ٹریننگ، زیر تربیت، آزمائشی عرصہ کے لئے تقرر شدہ (ملازم)۔مِرَان: مہارت، ہنر مندی، مشق، پریکٹس، ڈرل، ٹریننگ، عادت، خوپزیری، خوگری، عادی ہونا، عملی تجربہ، روٹین، معمول۔تَمَرُّن: مشق، پریکٹس، ٹریننگ، تربیت۔مُمَرِّن: تربیت یا ٹریننگ دینے والا، اتالیق، استاد، خانگی معلم، انسٹرکٹر، سکھانے والا، ڈرل سارجنٹ۔مُمَرَّن: پریکٹس کیا ہوا، تجربہ کار، تربیت یافتہ، ٹریننگ یافتہ۔علی: میں تربیت یافتہ، میں ماہر، کا عادی۔مُتَمَرِّن علی: میں پریکٹس کئے ہوئے، تجربہ کار، ماہر، ٹریننگ یافتہ، کا عادی ۔۔۔: آزمائشی، آزمائشی مدت میں، امیدوارانہ، کارآموزانہ۔

مره: ۱۔مَرِهَ ـمَرَهًا ت عينُهُ: کی سرمہ نہ لگانے سے آنکھ کا خراب ہونا۔صفت مَرِه و اَمْرَه۔رجل مَرِهُ الفؤاد: بیمار دل والا۔المُرْهَة: خالص سفید رنگ، بارش کے پانی والا گڑھا۔سحابٌ اَمْرَهُ: سفید بادل۔المَرْهاء جمع مُرْهٌ: امره کا مؤنث۔شاة مَرْهاء: سفید بکری۔ارض مَرْهاء: تھوڑے درختوں والی زمین خواہ ہموار ہو یا سخت اونچی۔

۲۔مَرْهَمَ مَرْهَمَةً الجرحَ: زخم پر مرہم لگانا۔المَرْهَم جمع مَرَاهِم: مرہم، پولٹس۔

مرو: المَرْو واحد مَرْوَة (ط ا): سنگریزہ، چقماق کا پتھر (کہا جاتا ہے:قَرَعَ الدهرُ مَرْوَتَهُ: زمانہ نے اس پر بلا نازل کی) ایک مہک دار پودا۔

مَرْو: ترکمان روس کے ایک شہر کا نام۔مَرْوِي: مَرْو کا باشندہ۔

مری: ۱۔مَرَى يَمْرِي مَرْيًا الناقةَ: اونٹنی کے تھن کو دودھ دوہنے کے لئے ملنا۔۔۔الدمَ و نحوَهُ: خون وغیرہ خارج کرنا، نکالنا۔۔۔ت الريحُ السحابَ: ہوا کا بارش لانا۔۔۔الشيءَ: کو نکالنا۔۔۔الفرسُ: گھوڑے کا تین ٹانگوں پر کھڑا ہو کر چوتھا پاؤں زمین پر مارنا۔۔۔الفرسَ: گھوڑے کو کوڑے وغیرہ سے آگے بڑھانا۔کہا جاتا ہے:مَرَيَمْرِي دابتَهُ: جانور کو ٹانگ

یاران سے آگے بڑھانا۔فلاناً مائة سوط: کوسو کوڑے مارنا۔مَارَی مِراءً و مُمَاراةً: جھگڑنا۔ أمْرَت الناقةُ: اونٹنی کادودھ بہنا۔تَمَارَیا: آپس میں جھگڑنا۔اِمْتَرَی و اسْتَمْرَی اللبنَ و نَحْوَهُ: دودھ وغیرہ نکالنا۔المِرْیَة: جھگڑا(کہاجاتا ہے: مافیه مِرْیة: اس پرکوئی جھگڑانہیں۔)تھن مل کرنکالا جانے والادودھ۔کہاجاتا ہے:اخذتُ مرية الناقة: میں نے اونٹنی کے تھن کو مل کر نکالا ہوا دودھ لیا۔ المُرِیة: جھگڑا۔المَرِیّ جمع مَرَایا بہت دودھ والی اونٹنی،دودھ سے بھرجانے والی رگ۔المَرِیّة بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔

۲۔مَرَی یَمْرِی مَرْیًا حقَّه کاحق قبول نہ کرنا۔

۳۔تَمَرَّی تَمَرِّیًا بکذا: سے آراستہ ہونا، بننا،ٹھننا، بناؤ سنگار کرنا۔المَارِیّ ہ مارِیّة سفیدونرم بالوں والا بچھڑا۔المَارِیة: سفیدونرم بالوں کے بچھڑے والی گائے۔المَرَایا جس کی جمع المِرْآة ہے۔کہاجاتا ہے:هنيئاً مَرِیًّا بجائے هنيئاً مريئاً (ہمزہ کے ساتھ)۔المُمْرِیة: سفیدنرم بالوں کے بچھڑے والی گائے۔

۴۔اِمْتَرَی فی الشیء: پرشک کرنا۔المِرْیَة والمُرْیَة: شک۔

۵۔المَارِیّ: دھاریدارچھوٹی چادر، بہت تیز کاشکاری۔ امْرٌ مُمِرٌ: سیدھاکام۔

۶۔مَرْیَم جمع مَرْیمات: عورت کااسم معرفہ یاذاتی نام (سریانی لفظ بمعنی بلندوبالا)۔

○ مَارَی ہ سے جھگڑنا، بحث تمحیص کرنا، بحث کرنا،تکرار کرنا،مقابلہ کرنا،مزاحمت کرنا،کی مخالفت کرنا۔—— فی کے مقابلہ میں حصہ لینا۔اِمتری فی: میں شک کرنا۔مُرْیَه و مِریَة۔ شک، جھگڑا۔مِراء: جھگڑا، شک۔بلامِراء یا لامِراء فيه: ناقابل تردید،حتمی، یقینی،مسلمہ،ماناہوا،جس میں مخالفت نہ ہو۔لامـراء فی أن: یہ ایک ناقابل تردیدحقیقت ہے کہ۔۔۔یہ بات یقینی ہے کہ۔۔۔۔۔یہ مسلمہ بات ہے کہ۔۔۔۔۔مَرْیَم میری Mary اور ماریا Maria۔مَرْیَمِیَة: خوشبودار سبزی،ساج۔

مزّ: ا۔مَزَّ ـِ مَزَازَةً الرجُلُ: فضیلت والا ہونا۔الشیءُ: زیادہ ہونا صفت مزیز۔مَزَّزَہٗ: کوفضیلت سمجھنا۔ــہٗ بکذا: کوکی فضیلت دینا۔المِزّ: قدر،فضیلت، کثرت۔کہاجاتا ہے:شیءٌ مِزٌّ: فضیلت والی چیز۔ المَزّ: کثرت۔کہاجاتا ہے:فعلته علی مَزّ: میں نے یہ کام فرصت میں کیا۔المَزیز: بہت عمدہ، اعلیٰ، بہت۔الأمَزّ م مَزَّاء جمع مُزّ: بہت عمدہ،اعلیٰ، افضل۔

۲۔مَزَّ ـُ مَزَازَةً و مُزُوزَةً الطعمُ: ذائقہ،کھٹامیٹھا،کھٹایا ترش ہونا،بےمزاہونا۔ـَمَزَّ الشیءَ: کوچوسنا۔ تَمَزَّزَ: کوئی ترش چیز کھانایاپینا۔ــالشراب: مشروب یاشراب کی چسکیاں لینا۔المُزّ م مُزَّة: کھٹ مٹھا،ترش،بےذائقہ۔ــو المُزَّاء: مزیدار،خوش ذائقہ شراب،چسکی،چوسنا۔کہاجاتا ہے:مابقی فی الاناء مَزَّة: برتن میں صرف تھوڑی سی چیز بچ گئی ہے۔ المَزِیز: تھوڑا۔

۳۔مَازَّ مُمَازَّةً بینهما: کودوردورکرنا،جداجداکرنا،کو علیحدہ علیحدہ کرنا۔تَمَازَّت النیّةُ به: سے دورہونا۔

۴۔المَزّ: مشکل،دشوار۔کہاجاتا ہے:هذا أمر مَزٌّ: یہ مشکل کام ہے۔المِزیز: مشکل۔الأمَزّ م مَزَّاء جمع مُزّ: مشکل۔

۵۔مَزْمَزَہٗ: کواکھاڑنے کے لئے ہلاناجلانا۔عوام کہتے ہیں:مَزْمَزَ الکأسَ: اس نے پیالہ کی چسکیاں لیں۔ تَمَزْمَزَ: ہلنا۔ــللقیام اٹھنایاتیارہونا۔

○ مَزَّ: چوسنا۔مُزّ: کھٹاسا،ہلکی سی کھٹاس رکھنے والی (چیز)۔مَزَّة جمع مَزَّات و مَازَّة: اچار،چٹنی وغیرہ۔ اشتہاانگیز(کھانے پینے کی چیز)۔

مزج: ا۔مَزَجَ ـُ مَزْجًا و مِزَاجًا الشرابَ بالماء: شراب میں پانی ملانا۔مَزَّجَ السنبلُ: بالی کازردہو جانا۔مَازَجَ مُمَازَجَةً ہٗ: سے خلط ملط ہونا،سے ملنا۔تَمَازَجَ: باہم خلط ملط ہونا۔اِمْتَزَجَ به: سے مل جانا،گھل مل جانا۔اِسْتَمْزَجَ ہٗ: سے مل جاناتاکہ اس کی خواہشات اورر،جحان معلوم کرے۔المِزج والمَزْج: شہد،شراب میں ملایاہواپانی۔المِزَاج (مص) جمع أمْزِجَة: شراب میں پانی کی طرح کوئی چیز جوملائی جائے۔آمیزش،مزاج،طبیعت۔رجل مَزَّاجٌ: متلون مزاج شخص۔المَزِیج: ملایاہوا۔

۲۔مَزَجَ ـُ مَزْجًا و مِزاجًا فلانًا علی فلان: فلاں کو فلاں کے خلاف بھڑکانا،اکسانا۔مَازَجَ مُمَازَجَةً ہٗ: سے فخر میں مقابلہ کرنا۔

۳۔مَزَّجَ فلانًا: کوکوئی چیز دینا۔

۴۔المَزِیج: کڑوابادام۔

○ مَزَجَ ـُ مَزْجًا و مِزاجًا بیں: مختلف چیزوں کوباہم ملانا،خلط ملط کرنا۔ــہ ب: کوسے ملانا،خلط ملط کرنا۔ مَازَجَ ہ سے آمیزہ یامرکب بنانا،سے خلط ملط ہونا، سے مل جانا،کی ملاوٹ والا ہونا،سے میل کھانا یا، امتزاج ہونا،سے مرکب ہونا،سے یکجاہونا۔ــو: اپنے آپ کو کے مطابق کرنا،موافق کرنا،کوخوش کرنا،کی بات ماننا۔تَمَازَجَ: باہم خلط ملط ہونا،مل کرایک ہو جانا۔اِمْتَزَجَ ب: سے مل جانا،مل جل جانا،آمیزش ہونا،مرکب ہونا،مخلوط ہونا،مل کرایک ہونا،سے رشتہ جڑنا،سے گھل مل جانا،خلط ملط ہونا،سے ایک ہوجانا۔ مَزْج: ملانا،خلط ملط کرنا،گھل مل جانا،ایک ہونا۔ مِزاج جمع أمْزِجة: آمیزہ،گڈمڈ،ترکیب دی ہوئی چیز،آمیزش والی چیز،مرکب،مزاج،طبیعت،سرشت، خصلت،فطرت،افتادطبع،رجحان،دماغی ساخت، اندازطبع،موڈ(mood) خو،خوش طبعی،رنگ،انداز، جسمانی ترکیب یابناوٹ،حالت،صحت کی حالت۔ مزاج دموی: جوشیلامزاج۔مزاج سوداوی: غمگین مزاج۔مزاج صفراوی: چڑچڑایاتیزغصیلا مزاج۔مزاج بلغمی: بلغمی مزاج ست یادھیما مزاج۔اِالمزاج العام: عوامی ذوق۔مزاج لطیف: نازک طبیعت،کمزورطبیعت۔مَحْرُور المزاج: گرم مزاج(شخص)۔منحرفُ المزاج: بیمار،علیل۔مضمحل افسردہ، ناساز۔هذا لا یوافق مزاجی: یہ میرے ذوق کے مطابق نہیں۔مزیج من کامرکب کاآمیزہ۔——: میل،مجموعہ،آمیختہ،مرکب، آمیزہ،ملاوٹ،کھوٹ،مختلف دھاتوں کا مرکب۔ اِمتزاج: آمیزش،مرکب،امتزاج،اختلاط،آمیزش والی چیز،ترکیب دی ہوئی چیز۔

مزح: ا۔مَزَحَ ـَ مَزْحًا: مذاق کرنا،ٹھول کرنا۔مَازَحَ مِزاحًا و مُمَازَحَةً ہٗ: سے ہنسی مذاق کرنا۔تَمَازَحا باہم ہنسی مذاق کرنا۔المُزَاح و المُزَاحة ہنسی مذاق، ٹھول۔المُزَّاح من الناس: ہنسی مذاق کرنے والے،ٹھولئے۔

۲۔مَزَّحَ السنبلُ او العنبُ: بالی یاانگورکارنگ پکڑنا۔ المَزْح (مص): بالی،خوشہ۔

۳۔تَمَزَّحَ به: پرفخرکرنا۔

○ مَزَحَ ـَ مَزْحًا: مذاق کرنا،مزاح کرنا،یونہی کہہ دینا، دل لگی کرنا،چھیڑنا۔مَزْح و مُزَاح و مِزَاح و مُزَاحة: دل لگی،ہنسی مذاق۔مَزَّاح و مازح: مسخرا، بھانڈ۔

مزد: المَزْد: سردی۔کہاجاتا ہے:ما رأینا مَزدًا فی هذا العام: ہم نے اس سال سردی نہیں دیکھی۔

مزر: ا۔مَزَرَ ـُ مَزْرًا من اللبن: تھوڑاسادودھ پینا۔ــ اللبنَ: دودھ کوچکھنے کے لئے پینا۔ــہٗ: کی چسکی لینا۔ تَمَزَّرَ النبیذُ: شراب کوتھوڑاتھوڑاپینا۔المَزْرَة: چوسنا،چسکی۔المِزْر: جویاگندم کی شراب۔

۲-مَزَرَ-مَزَارَةً: کو غصہ دلانا-و مَزَّرَ القِربةَ: مشک بھرنا۔

۳-مَزُرَ-مَزَارَةً: مضبوط دل والا ہونا، بذلہ سنج ہونا، ظریف ہونا-المَزُر (مص): بذلہ سنج-ظریف۔ المَزِیر جمع مَازِر: بذلہ سنج، ظریف، مضبوط دل شخص-الأَمْزَر م مَزْرَاء جمع مُزْر و أَمَازِر: زیادہ بذلہ سنج، خوش دل، زیادہ ظریف-کہاجاتا ہے هو من امازر الناس: وہ بہترین لوگوں میں سے ہے۔

۴-المِزْر: بے وقوف، اصل-کہاجاتا ہے هو کریمُ المِزر: وہ شریف الاصل ہے۔

۞ مِزر: ایک قسم کی شراب۔

مزع: امَزَعَ-مَزْعًا الظبی و نحوُهُ: ہرن وغیرہ کا آہستہ دوڑنا-المَزّاع: بہت دوڑنے والا (ح) سیہی، خارپشت-کہاجاتا ہے القنافذ تَمزَعُ باللیل مَزْعًا: سیہیاں رات کے وقت تیز چلتی ہیں-المَزْعِیّ: چغل خور، رات کو چلنے والا-فرس مُمْزَعٌ: تیز رفتار گھوڑا۔

۲-مَزَعَ-مَزْعًا القطنَ: روئی کو انگلیوں سے چننا-مَزَّعَ الشیءَ: کو متفرق کرنا-القطنَ: روئی کو انگلیوں سے چننا-تَمَزَّعَ: الگ الگ ہونا-تَمَزَّعوا الشیءَ بینهم: انہوں نے چیز آپس میں تقسیم کر لی-کہاجاتا ہے هو یتمزّعُ غیظًا: وہ غصہ میں بولنے سے رک جاتا ہے-المِزْعَة جمع مِزَع: روئی وغیرہ کا گالا-و المُزْعَة جمع مِزَع و مُزَع من لحم او شحم: گوشت یا چربی کا ٹکڑا-من الماء: پانی کا گھونٹ-المُزَاعة من الشیء: چھنتے وقت گرجانے والی چیز۔

۞ مَزَعَ-مَزْعًا: دوڑنا، کودنا، چھلانگ لگانا، چھلانگیں لگاتے ہوئے جانا، اڑتے ہوئے جانا، سرپٹ دوڑنا۔ ہ: کو پھاڑنا، چیرنا-ہ من: کو سے پھاڑلینا کو کاٹ کر کھولنا-مَزَّعَ ہ: اون یا روئی چننا، توڑنا، اکٹھا کرنا، کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا-مُزْعة و مِزْعة جمع مُزَع و مِزَع: ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا، کٹا ہوا ٹکڑا، اون کی جٹا، اون یا روئی کا گچھا، اون یا روئی کا گالا، اون کی کترن یا گودڑ۔

مزق: مَزَقَ-مَزْقًا و مَزْقَةً الثوبَ: کپڑا پھاڑنا-عِرضَهم: کی عزت پر عیب لگانا صفت مَزِق جمع مَزِقُون-اتانی انهم مَزِقُون عِرضی: مجھے پتہ لگا کہ وہ میری عزت پر عیب لگاتے ہیں-مَزَّقَ الثوبَ: کپڑا پھاڑنا-کہاجاتا ہے مَزَّقَهُم اللهُ کُلَّ مُمَزَّقٍ: اللہ نے انہیں ملک کے اطراف میں بکھیر دیا-مَازَقَ ہُ: پرودوڑ میں سبقت لیجانا-تَمَزَّقَ: پھٹنا-القومُ: بکھر جانا-اِنْمَزَقَ: پھٹنا-کہاجاتا ہے ثوبٌ مَزِقٌ و مِزَقٌ و مَزِیقٌ: پھٹا ہوا کپڑا-المُزْقة جمع مُزَق: کپڑے وغیرہ کا ٹکڑا، چیتھڑا-ناقةٌ او فرسٌ مِزاق: تیز رفتاری سے کھال پھٹنے کے قریب اونٹنی یا گھوڑا۔

۲-مَزَقَ-مَزْقًا و مَزْقَةً الطائرُ بسلحه: پرندے کا بیٹ کرنا۔

۞ مَزَقَ-مَزْقًا ہ: کو پھاڑنا، کے ٹکڑے کرنا، کو پھاڑ کر جدا کرنا-مَزَّقَ ہ: کو پھاڑنا، کے ٹکڑے کرنا، کو پھاڑ کر جدا کرنا، کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کو چیتھڑے کر دینا-تَمَزَّقَ: پھٹنا، ٹکڑے ہونا، چیتھڑوں کی شکل میں ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، پھٹ کر کھل جانا، پھٹنا، چرنا، ٹوٹنا، ٹوٹ جانا، تڑاقے سے کھلنا-مَزْق: پھاڑنا، ٹکڑے کرنا، چاک، درز، شگاف، لکیر، چیری، ٹوٹ پھوٹ، شکستگی، بگاڑ-مِزْقة جمع مِزَق: پھاڑا ہوا ٹکڑا، چیتھڑا-تَمزیق: پھاڑنا، ٹکڑے کرنا، چیتھڑے کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

مزك: المَزْكا: شراب اور پانی کا نام جو نذر کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ (سریانی لفظ بمعنی مزج ہے)۔

مزن: امَزَنَ-مَزْنًا و مُزُونًا: چلے جانا، راہ لینا-من العدوّ: دشمن سے نکل کر بھاگ جانا-تَمَزَّنَ: چلے جانا، اپنی راہ لینا۔

۲-مَزَنَ-مَزْنًا و مَزَّنَ فلانًا: کی تعریف کرنا، کو اس کی پیٹھ پیچھے حاکم کے سامنے ترجیح دینا اور اس کی ستائش کرنا-القِربةَ: مشک بھرنا-تَمَزَّنَ: حد سے زیادہ اپنی تعریف کرنا-زیرک بننا-علی القوم: پر مہربان و سخاوت کرنا-المُزْن: بادل، بارش والا بادل-حَبُّ المُزْن: اولہ-المُزْنة: بادل کا ٹکڑا، بارش۔

۳-مَزَنَ-مَزْنًا و مُزُونًا وجهُهُ: چہرہ کا چمک اٹھنا۔

۴-تَمَزَّنَ علی الامر: کام کا عادی ہونا-المَزْن: عادت، طریقہ، حالت-کہاجاتا ہے مازال علی هذا المَزْن: وہ اس طریقہ یا حالت پر ہے۔

۵-المَازِن: چیونٹیوں کے انڈے-مُزَیْنَة: مضر کا ایک قبیلہ-ان لوگوں کی طرف منسوب کو مُزَنی کہتے ہیں۔

۞ مُزْن (اسم جمع واحد مزنة) جمع مُزَن: بارش لانے والے بادل۔

مزه: مَزَهَ-مَزْهًا: ہنسی مذاق کرنا۔

مزو: مَزَا یمزُو مَزْوًا: تکبر کرنا-مَزَّی تَمْزِیَةً ہ: کی تعریف کرنا-کہاجاتا ہے مَزَّیتُ متاعَهُ حتی نفّقتُهُ له: میں نے اس کے سامان کی تعریف یہاں تک کی کہ اس کے لئے منڈی تلاش کرلی-تمازی القومُ: ہرایک کا اپنی فضیلت کے گیت گانا-المَزْو و المَزِیَّة جمع مَزایا و المَازِیَة جمع مَازِیَات: علم و کرم شجاعت و شرافت وغیرہ میں فضیلت و برتری جو انسان کو دوسرے سے ممتاز کردے۔

مزی: مَزَی-مَزْیًا: تکبر کرنا-مَزَّی تَمْزِیَةً الرجلَ: کی تعریف کرنا-کہاجاتا ہے قعد عنی سازیا و متمازیًا: وہ مجھ سے دور مخالف ہو کر بیٹھا-المُزاة مفرد مازٍ: سرکش لوگ-المازیة ج مازیات و المزیّة ج مزایا: علم یا کرم یا شجاعت یا شرف وغیرہ جس سے انسان یا چیز دوسرے سے ممتاز ہو-المَزِیّ: ظریف، خوش طبع، بذلہ سنج، زیرک۔

۞ مَزِیّة جمع مَزایا و مازیة جمع مازیات: بہتری، برتری، استحقاق، خصوصی اختیار، اختیار، حق، فضیلت، قدر، شرف، سربلندی، جوہر ذاتی، گن، وصف، قابلیت، لیاقت، رتبہ، درجہ، بزرگی، خوبی، صفت، اچھائی۔

مس: امَسَّ-مَسًّا و مَسِیسًا و مِسِّیسَی الشیءَ: کو چھونا، کو پہنچنا-المرضُ او الکبرُ فلانًا: کو بیماری یا بڑھاپے کا لاحق ہونا-ت الحاجةُ الی کذا: حالات کا تقاضا ہونا کہ یہ ضروری ہے کہ، کی فوری ضرورت ہے، ضرورت کا پر مجبور کرنا-ہُ الشیطانُ بنصب او عذاب: شیطان کا کسی کو بیماری یا دکھ میں مبتلا کرنا-کہاجاتا ہے مَسَّتْ فلانًا مَوَاسُّ الخیر والشرّ: کو بھلائی پیش آئی یا اس پر برائی آپڑی-مَسَّتْ بك رحمُ فلان: تجھے فلاں شخص کے ساتھ قریبی رشتہ پہنچا-مُسَّ مَسًّا: پاگل ہونا صفت ممسوس-ماسّ مُمَاسَّةً و مِسَاسًا ہ: کو چھونا، پہنچنا، بذات خود ملنا-امَسَّ ہ الشیءَ: کو چیز چھونا-کہاجاتا ہے امَسَّ وجهه الماءَ او بدنه الطیبَ: اس نے چہرہ پر پانی اور جسم پر خوشبو چھڑکی-تماسّ الشیئان: ایک دوسرے کو چھونا-الماسّ (فا) حاجةٌ ماسّةٌ: سخت ضرورت-کہاجاتا ہے بینهم رحمٌ ماسّة: ان کے درمیان قریبی رشتہ ہے-مَسَاسِ: اسم فعل بمعنی الامر یعنی چھو-یہ بھی کہاجاتا ہے لا مَسَاسِ: مت چھو-المَسّاس: بہت چھونے والا-مَسّاس الفدان عند الحرّاثین: آنکس، کچک، آر (سریانی لفظ)-کہاجاتا ہے بینهم رحمٌ مَسَّاسة: ان کے درمیان انتہائی قریبی رشتہ ہے-المَمسوس من الماء: پانی جو ہاتھوں سے لیا جا

سکے، میٹھا صاف پانی، میٹھے اور نمکین کے درمیان، پیاس بجھانے والا پانی۔ کَلاءٌ مَسُوسٌ: بڑھی ہوئی گھاس، خوشگوار گھاس۔ الأَمَسّ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے: ھو فی اَمَسّ حاجة الی کذا: اسے اس کی اشد ضروری حاجت ہے۔ مَسِیسُ الحاجة: حاجت کا مجبور کرنا۔

۲۔ المِسّ: تانبا۔ المَسِیسَة (ط) ایک قسم کی مٹھائی۔

۳۔ مُسْمَسَ مُسْمَسَةً و مِسْمَاسًا الامرُ: کام کا پیچیدہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: ھو من امرہ فی مِسْمَاس: وہ اپنے معاملہ کے متعلق الجھن میں ہے۔ مُسْمِسَ الرجُلُ: مخبوط الحواس ہونا۔ المَسْمَاس: خفیف، ہلکا۔

مَسّ ـَـ مَسًّا و مَسِیسًا ہ/ہ: کو محسوس کرنا، چھونا، ٹٹولنا، چھو کر معلوم کرنا، بھانپنا، جانچنا، بتلا ہونا، کو جھکتنا، انگلی سے چھونا، کو ہاتھ لگانا، چلانا، استعمال کرنا، کا بندوبست کرنا۔ ـــ ہ (کسی متبرک یا مقدس چیز) کی بے حرمتی کرنا، کی خلاف ورزی کرنا، سے تجاوز کرنا۔ ـــ ہ (عورت، بیوی) سے ہمبستر ہونا، مباشرت کرنا، صحبت کرنا۔ ـــ ہ (نقصان، مصیبت) کا کسی پر وار کرنا، پر نازل ہونا، پڑنا، واقع ہونا۔ مَسّہ بأذیً یا مسہ بسُوءٍ: کو نقصان پہنچانا، کو تکلیف دینا، مجروح کرنا، ٹھیس پہنچانا، پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کو بدنام کرنا، رسوا کرنا۔ مسّ بسوءٍ الشیءَ: کے لئے نقصان رساں ہونا، مضر ہونا، کو نقصان پہنچانا، کو بگاڑنا، کو کمزور کرنا، گھٹانا۔ مَسَّت الحاجة الی: حالات کا تقاضا ہونا کہ، یہ ضروری ہے کہ، اس کی فوری ضرورت ہے کہ۔ ـــ مس لغمًا: کسی سرنگ سے ٹکرانا۔ ماسّ ہ: کو چھونا، کے ساتھ میل جول رکھنا، رابطہ رکھنا۔ تَمَاسّا: ایک دوسرے کو چھونا، باہم رابطہ میں ہونا۔ مَسّ: چھونا، میل جول، رابطہ، مصیبت، حملہ، (بیماری کا) دورہ، عارضی غلبہ، پاگل پن، دیوانگی، جنون، خبط، سودا، خفقان، جنون کا حملہ، قبضہ۔ مَسّ الحُمّٰی: بخار کا حملہ۔ اصابہ مس من الجنون: وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ مَسّۃٌ: چھونا۔ مِسَاس: چھونا، محسوس کرنا، انگلی لگانا، ہاتھ لگانا، چھو کر معلوم کرنے کا عمل۔ ـــ ب: کی بے حرمتی، خلاف ورزی، سے تجاوز۔ مِسَاس: تعلق، رشتہ، رابطہ۔ لہ مساس بہ: یہ ـــ سے مربوط ہے، یہ...... کے متعلق کہتا ہے، کہتی ہے، یہ...... کے متعلق ہے۔ فیمالہ مِسَاس بہ: کے متعلق، کے بارے میں۔ مَسِیس: چھونا، لمس۔ عِندَ مَسِیسِ الحاجة: ضرورت پڑنے پر، اگر یا جب ضروری ہو۔ فی مسیس الحاجة إلی: کا فوری ضرورت مند۔ تماسّ: (باہمی) رابطہ۔ ماسّ: خط مماس۔ وہ خط جو کسی سطح کو چھوتا ہوئے گزرے مگر قطع نہ کرتا ہو۔ ماسّ ب: کو چھوتا ہوا، کے متعلق کچھ کہتا ہو۔ ماسّ بالحق: ملا ہوا، متصل، قریب، فوری، تاکیدی، ضروری، اہم۔ حاجة ماسة: فوری ضرورت، شدید ضرورت، اہم ضرورت۔ ماس کھربائی: شارٹ سرکٹ۔ برقی رو کا ناقص دور short circuit۔ مَمْسُوس: چھوا ہوا، چھونے کے قابل، لمس کے لائق، کھلا ہوا، واضح، صاف۔ مُمَاسّ: خط مماس (tangent)۔

مسأ ۱۔ مَسَأَ ـَـ مَسْأً و مُسُوءًا: محوّل کرنا۔

۲۔ مَسَأَ ـَـ مَسْأً و مُسُوءًا الماشی: دیر لگانا، آہستہ ہونا۔ ـــ الحقَّ: کی ادائیگی میں تاخیر کرنا۔

۳۔ مَسَأَ ـَـ مَسْأً و مُسُوءًا الطریقَ: راستہ کے درمیان میں چلنا۔

۴۔ مَسَأَ ـَـ مَسْأً و مُسُوءًا علی الشیءِ: کا عادی ہونا۔ ـــ الرجُلَ بالقول وغیرہ: کو بات وغیرہ سے نرم کرنا، دھوکا دینا۔ ـــ و أَمْسَأَ بین القوم: لوگوں میں فساد ڈالنا۔ تَمَسَّأَ الثوبُ: کپڑے کا پرانا ہونا۔

مُسْتَرْدَہ: رائی، سرسوں، خردل، سرشف، توریا۔ مِسْتِکَہ: مصطگی۔ مَسْتِلَہ جمع مَسْتِلات: ٹب (tub)۔

مسح ۱۔ مَسَحَ ـَـ مَسْحًا الشیءَ: کو پونچھنا۔ بیماری کیلئے دعا کرتے ہیں: مسح اللہ مابک من عِلَّةٍ: اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری دور کرے اور تمہیں صحت یاب کرے۔ ـــہ بالدھن: پر تیل ڈالنا یا تیل ملنا۔ ـــ ذوائبَ المرأة: کے بالوں میں کنگھی کرنا۔ ـــ الإبلَ: اونٹوں کو تھکا کر کمزور کرنا۔ ـــہ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا (بطور استعارہ)۔ ـــ عُنُقَہ: کی گردن کاٹنا۔ ـــ فلانًا: کو مارنا۔ ـــ سیفَہ: تلوار سونتنا۔ کہا جاتا ہے: مسح القومَ قتلًا: کو بے دردی سے قتل کرنا۔ کہا جاتا ہے: مسحہ اللہُ: اللہ تعالیٰ نے اسے مبارک اور خوبصورت پیدا کیا یا ملعون اور بدصورت پیدا کیا (ضد)۔ ـــ مُسُوحًا فی الارض: زمین میں سفر کرنا (استعارہ ہے)۔ مَسِحَ ـَـ مَسَحًا: کپڑے کے کھردرے پن سے گھٹنوں کا اندر سے جلنا۔ مُسِّحَ بالعِتق او الکرم: پر انگور کی بیل یا شراب کا رنگ ہونا۔ مَسَّحَ الشیءَ: کو پونچھنا۔ ـــہ بالدھن: پر تیل لگانا یا ملنا۔ ـــ الإبلَ: اونٹوں کو تھکا کر کمزور کرنا۔ تَمَسَّحَ بالماء و من الماء: پانی سے نہانا۔ ـــ الشیءَ: کو پونچھنا۔ ـــہ بالماء او الدھن: کو پانی یا تیل سے ملنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ یُتَمَسَّحُ بہ: فلاں سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ اِمْتَسَحَ السیفَ: تلوار سونتنا۔ الماسِح: بہت قتل کرنے والا۔ الماسِحة جمع مَوَاسِح: ماسح کا مؤنث۔ کنگھی کرنے والی۔ المِسْح جمع اَمْسَاح و مُسُوح: بالوں کا کمبل، بالوں کا کپڑا، بالوں کی قمیص، خانقاہی لباس، راہب کا چوغا، ٹاٹ، بوریا، بڑی سڑک۔ المَسَح (مص): کپڑے کے کھردرے پن سے گھٹنے کے اندرونی حصہ کی جلن۔ المَسْحَة: مَسْح کا اسم مرة۔ رگڑ، نشان، اثر۔ کہا جاتا ہے: علیہ مسحة من جمالٍ او ھزالٍ: اس پر حسن یا لاغری کا ظاہری اثر ہے۔ مُسْحَةُ المرضی: تسکین دینے والا مرہم، پاک روغن کی مالش۔ المَسَّاح: زمین کی پیمائش کرنے والا۔ المَسِیح جمع مُسَحَاء و مَسْحَی: تیل لگایا ہوا، پسینہ، صدیق، چاندی کا ٹکڑا، کانا، خوبصورت چہرے والا خوبصورت، بہت سیاحت کرنے والا۔ ـــ من الدراھم: نقش مٹا درہم۔ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام۔ المَسِیحة جمع مَسَائح: سر کے دونوں جانبوں کے بال، پیشانی کے بال، کنپٹی اور پیشانی کا بیچ، کمان، چاندی کا ٹکڑا۔ المَسِیحی: عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب۔ المِسِّیح: بہت سیاحت کرنے والا۔ الأَمْسَح م مَسْحَاء جمع مُسْح: رگڑ سے سوزش والی رانوں والا، ہموار یا چپٹے تلووں والا، یک چشم، کانا، بڑا سیاح۔ ـــ من الارض جمع أَمَاسِح: ہموار زمین۔ المَسْحَاء: چھوٹے پستانوں والی عورت۔ کہا جاتا ہے: امرأة مسحاء الثدی (اسی معنی میں)۔ جمع المَسَاح و المَسَاحی: ہموار زمین، جس میں کنکر ہوں اور پودے وغیرہ نہ ہوں، سرخ زمین۔ المِمْسَح و المِمْسَح المِمْسَحة: جس سے پونچھا جائے۔ جھاڑن۔

۲۔ مَسَحَ ـَـ مَسْحًا و تِمْسَاحًا: جھوٹ بولنا۔ مَسْحَاۃُ او مَسَحَ رأسَہُ: دھوکا دینے کے لئے کسی سے اچھی باتیں کرنا۔ مَسَّحَ فلانًا: دھوکا دینے کے لئے کسی سے اچھی باتیں کرنا۔ مَاسَحَ مُمَاسَحَةً: کو دھوکا دینا، گمراہ کرنا، بہلانا، کو میٹھی باتوں سے ورغلانا، مصافحہ کرنا۔ ـــہ علی کذا: سے پر معاہدہ کرنا۔ تَمَاسَحا: اتفاق کرنا، خرید و فروخت کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ کہا جاتا ہے۔ تماسحوا علی کذا: پر سب نے عہد و پیمان کیا۔ التقوا فتماسحوا: وہ ملے اور مصافحہ کیا۔ الماسح

(فا)۔ جھوٹا۔ المَسِیح: جھوٹا۔ الأَمْسَح م مَسْحاء جمع مُسح: جھوٹا۔ التِمْسَح: جھوٹا، نرم بات سے فریب دینے والا۔

۳۔ مَسَح ۔مَسْحًا و مَساحَةً الارضَ: زمین کی پیمائش کرنا، تقسیم کرنا، سروے کرنا۔ المِساحة: مسح الارض کا مصدر اور اسم۔ زمین کی پیمائش۔ علمُ المِساحة (ج): وہ علم جس میں خطوط، سطوح اور اجسام کی مقداروں سے بحث کی جاتی ہے۔ المَسّاح: زمین کی پیمائش کرنے والا۔ المَسِیح: بازو۔

۴۔ التِمْسَح: بڑا سرکش۔ ۔و التِمساح جمع تَماسِح و تَماسِیح (ح): مگرمچھ۔

ⓒ مَسَحَ ہ: کو ہموار کرنا، کو رندہ سے ہموار کرنا، کو رندہ کرنا، کو صاف کرنا، صیقل کرنا۔ ۔۔ہ من۔ کو سے محروم کرنا، کو سے بے دخل کرنا، کو سے لینا، کو سے واپس لینا ۔۔۔ ہ: (زمین وغیرہ) کا سروے کرنا، کی مالیت اور منافع یا مالگزاری کا سروے کرنا، پیمائش کرنا۔ ماسَحَ ہ: کی چاپلوسی کرنا، سے میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے مطلب براری کرنا، کو فریب دینا، بہکانا، سے خوشامد سے کام لینا، کو منوا لینا، قائل کر لینا۔ تَمَسَّحَ ب: کو غصہ دلانا، طیش میں لانا، سے جھگڑا کرنا۔ لبست المسوح: راہبہ بن جانا۔ مَسْحَة: رگڑنا، ملنا، سہلانا، صیقل کرنا، ملنا، مالش کرنا، مالش کی دوا، لیپ، ضماد، مرہم، تسکین دینے والا مرہم، حد درجہ تسکین دینے والا مراہم، مقدس، روغن، رنگ کی کمی بیشی، چاشنی، رنگ، ہلکا سا رنگ، جھلک، انداز، نشان، شکل، سایہ، آثار، علامت، ظہور، نقاب، پرت، آڑ، شائبہ، ہلکا سا اثر۔ الدین المسیحی: عیسائیت، عیسوی مذہب۔ المَسِیحیة: مسیحی دنیا، عیسائی، نصاریٰ، عیسائیت، نصرانیت، مسیحیت۔ ماسِح: بوٹ پالش کرنے والا۔ ممسوح من المعنی: بے معنی، بیہودہ بکواس، احمقانہ، معنی سے خالی۔

مسخ: ا۔ مَسَخَ ۔مَسْخًا ہُ: کی صورت بگاڑ دینا، کو بری صورت میں بدل دینا۔ کہا جاتا ہے: مسخه اللّٰہ قردًا: اللہ اسے بندر کی شکل میں بدل دے۔ صفت مفعولی: مسخ و مَسِیخ جمع مُسُوخ۔ ۔الکاتبُ: کاتب کا کتابت میں بہت غلطیاں کرنا ۔۔۔ طعمَ اللحم: گوشت کو بے مزا کرنا ۔۔۔ الناقةَ: اونٹنی کو لاغر کرنا۔ تَمَسَّخَ الغزلُ: سوت کا ٹوٹنا۔ اِمَّسَخَ و انْمَسَخَت العضدُ: بازو کا کم گوشت ہونا۔ اسم مُسْخ۔ المَسْخ: تبدیلی ہیئت، تناسخ۔ المَسِیخ: احمق، بدشکل ۔من الطعام: بے نمک، بے ذائقہ کھانا۔ المَمْسُوخ (مفع): فرسٌ مَمْسُوخ: دبلے پٹھے والا گھوڑا۔

۲۔ أَمْسَخَ الورمَ: ورم تحلیل ہونا۔

۳۔ اِمْتَسَخَ السیفَ: تلوار سونتنا۔

۴۔ الأَمْسُوخ (ن): ایک پودے کا نام جس کی جڑ سے کئی شاخیں نکلتی ہیں اور پھل مٹر کے دانے جتنا ہوتا ہے۔

۵۔ المَسْخَرة جمع مَساخِر: ہر وہ چیز جس کی تضحیک کی جائے۔ اضحوکہ، اس سے فعل ہے: مَسْخَرَہ: کا تمسخر کرنا، کی ہنسی اڑانا اور تَمَسْخَرَ علی: سے مذاق کرنا، کو چھیڑنا، پر ہنسنا، کی ہنسی اڑانا۔ مساخر: لہو و لعب کی محفلیں۔

ⓒ مَسَخَ ۔مَسْخًا ہ من۔ إلی: کو سے میں بدل دینا، کی صورت سے میں بدل دینا۔ ۔۔ہ: کی تبدیلی ہیئت کرنا، کو بدل ڈالنا، بدلنا، کو جھٹلانا، کی شکل بگاڑنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کو بگاڑنا، خراب کرنا، ستیاناس کرنا۔ مَسْخ: تبدیلی ہیئت۔ تناسخ، اواگون، تکذیب، توڑ مروڑ کر کے بیان کرنا، دروغ بیانی، غلط بیانی۔ مَسْخ و مِسخ جمع مُسُوخ: جانور کی شکل میں تبدیل کیا ہوا، بدل شکل، بگڑی ہوئی شکل والا، بدنما کیا ہوا، صورت بگاڑا ہوا، بونا، بالشتیا، عجیب اور خوفناک صورت، بے ہنگم بڑا جسم، عجیب الخلقت، عفریت، راکشس، دیو، بدنفس، شریر انسان۔ مُسْخة: مسخرہ، دل لگی کرنے والا، بھانڈ، نقال، کندہ ناتراش۔ مسیخ: تبدیلی ہیئت کیا ہوا، بگاڑا ہوا، بدنما کیا ہوا، صورت بگاڑا ہوا، بدشکل، بے مزہ، پھیکا، بے لذت، بدذائقہ، بے لطف، روکھا پھیکا، بے نمک، باسی، فرسودہ، خستہ۔ ممسوخ: تبدیلی ماہیت کیا ہوا، بگاڑا ہوا، خراب کیا ہوا، بدشکل کیا ہوا، بدصورت، بدنما کیا ہوا۔

مسد: مَسَدَ ۔مَسْدًا الحبلَ: رسی بٹنا یا عمدہ بٹنا ۔فی السیر: تھکانا۔ مُسِدَ البطنُ: پیٹ کا نرم و ہموار ہونا۔ مَسَدَ الشیءَ و علی الشیء: پر سختی سے ہاتھ پھیرنا۔ (عامی زبان میں) المَسَد جمع مِساد و أمْساد: کھجور کے ریشے کی رسی، مضبوط رسی، لوہے کا دھرا۔ المِساد: شہد کی مشک۔ قوام، بنیاد، درستگی۔ کہا جاتا ہے: هو احسنُ مسادِ شعرٍ منك: اس کے بالوں کی درستگی تیرے بالوں سے اچھی ہے۔ ساق مَسْداء: خوبصورت سیدھی ٹانگ۔ التَّمْسِید: جسم پر عضلات کو نرم کرنے اور تیل جذب کرنے کے لئے ہتھیلی کو سختی سے پھیرنا۔ المَمْسُود (مفع) رجلٌ مَمْسُود: مضبوط، ہٹا کٹا۔

ⓒ مَسَّدَ اعضاءَہ: کے اعضاء جسم کی مالش کرنا، ہاتھ پاؤں دبانا، چپی کرنا۔ مَسَد (اسم جمع) جمع مِساد و أمساد: کھجور کے ریشے۔ تمسید: بدن کی مالش، چپی۔

مسر: الماسُورة جمع مَواسیر: پائپ، ٹیوب، پانی دینے والی نرم نالی (hose)، پانی کا پائپ، واٹر مین (watermain)، سلائی مشین، بندوق کی نالی، نل، بڑی نالی، پائپ لائن (خصوصاً تیل منتقل کرنے کے لئے)۔ المَسّار: بڑی چٹان۔

مسط: ا۔ مَسَطَ ۔مَسْطًا المِعَی: انگلی کے ذریعہ آنت کے اندر کی چیز نکالنا۔ ۔الثوبَ: کپڑے کو نچوڑنا ۔۔ السقاءَ: انگلی سے مشکیزہ میں جما ہوا دودھ نکالنا۔ الماسِط (فا): نمکین پانی جو جلاب کے کام آتا ہے (ن) ایک پودا جسے اونٹ چریں تو جلاب کا اثر کرے۔ المَسِیطة: وادی جس میں تھوڑا سا پانی بہہ رہا ہو۔

۲۔ مَسَطَ ۔مَسْطًا فلانًا بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔

۳۔ المَسِیط: کیچڑ، گدلا پانی جو حوض میں رہ گیا ہو۔ المَسِیطة: گدلا پانی۔

ⓒ مِسْطَرَة جمع مَساطِر: نمونہ، مثال۔

ⓒ مسقط: (عمان کا دار الحکومت اور بندرگاہ)۔

مسع: المِسْع: شمالی ہوا۔ المِسْعی: بہت چلنے والا اور مضبوط آدمی۔

مسک: ا۔ مَسَكَ ۔مَسْكًا بہ: سے چمٹنا، متعلق ہونا۔ ۔بالنار: زمین کے گڑھے میں آگ رکھ کر راکھ سے چھپانا، دفن کرنا ۔۔۔ مَساكَةً السقاءُ: مشکیزہ کا پانی گرنے نہ دینا۔ مَسَّكَ بہ: سے چمٹنا۔ أَمْسَكَ ہُ: کو روکنا ۔بہ: سے چمٹنا۔ أَمْسَكَ ہُ: کو روکنا۔ ۔بہ: سے چمٹنا۔ ۔الشیءَ علی نفسه: کو اپنے پاس روک لینا۔ ۔اللّٰہُ الغیثَ: اللہ کا بارش روکنا۔ ۔عن الکلام: خاموش ہو جانا۔ ۔عن الامر: سے رک جانا، باز رہنا۔ تَمَسَّكَ و تماسَكَ و اِمْتَسَكَ بہ: سے چمٹنا۔ کہا جاتا ہے: ما تَماسَكَ ان قال کذا: وہ یہ کہنے سے نہ رکا۔ غشینی امرٌ مُقْلِقٌ فتماسکتُ: مجھے ایک پریشان کن معاملہ پیش آیا مگر میں نے اپنے آپ پر ضبط کیا۔ ما به تماسُكٌ: اس میں کوئی خیر نہیں۔ اِمْتَسَكَ فی البلد: وہ شہر میں رہا۔ اِسْتَمْسَكَ بہ: سے چمٹنا ۔عن کذا: سے رکنا۔ اِسْتَمْسَكَ بولُهُ: کا پیشاب بند ہونا۔ ۔الرجلُ علی الراحلة: سواری پر جم کر بیٹھنا۔ کہا جاتا ہے: بیننا ماسِکةُ رَحِمٍ: ہمارے درمیان پیچیدہ رشتہ

داری نہیں۔ الآلة الماسكة: بمعنی الآلة الممسكة۔ المُسْك: بدن کو باقی رکھنے کی مقدار کھانا اور پانی پوری عقل۔ المُسْكُ (مص) جمع مُسُك و مُسُوك: کھال۔ مُسكة: کھال کا ٹکڑا۔ المُسُك: بخیل۔ المَسَك واحد مَسَكَة: پانی روکنے کا بند، زمین کے طبقات، کنگن یا پازیبیں۔ المُسْكَة جمع مُسَك: دستہ، گذارہ، سخت زمین میں کھودا ہوا کنواں، پوری عقل ورائے۔ کہا جاتا ہے: ما فيه مُسْكَة: اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ ليس لأمره مُسْكَة: اس کے معاملہ کی کوئی قابل اعتماد اصل و بنیاد نہیں۔ فيه مُسْكَةٌ من خير: اس میں بھلائی کا کچھ بقیہ ہے۔ مافي سقاء و مُسْكة من ماء: اس کی مشک میں تھوڑا سا پانی بھی نہیں۔ ـــو المُسْكَة: بخل۔ المُسَكَة جمع مُسَك: بخیل، وہ شخص جو کسی چیز سے چپٹے تو اس سے چھٹکا نہ پا سکے، وہ شخص کہ جب کوئی اس کے مقابل ہو تو بھاگ کھڑا ہو۔ المَسَاك: پانی روکنے کا بند، بخل، کنجوسی۔ المِسَاك: بخل، روکنے کی چیز، تلوار وغیرہ کا دستہ۔ کہا جاتا ہے: مافيه مِسَاكٌ: اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ المَسَاكة والمِسَاكة: بخل۔ المُسْكان جمع مَسَاكين: بیعانہ۔ المَسَّاك: بخیل۔ المَسَاكات: پانی محفوظ رکھنے کی جگہیں۔ المَسِيك جمع مُسُك و المِسِّيك: بخیل۔ کہا جاتا ہے: سقاءٌ مَسِيك و مِسِيكٌ: پانی روکنے والی مشک، جو پیاس نہ بجھائے۔ مافيه مَسِيكٌ: اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ المَسِيكَة و الارض المَسِيكَة: سخت زمین۔ الإمْسَاك (مص): بخل۔ ـــ عند الرهبان: پرہیزگاری (بعض کھانوں سے پرہیز)۔ المُمْسِك: بخیل۔

۲۔ مَسَّكَ هُ: کو مشک کی خوشبو لگانا۔ المِسْك: مشک، کستوری۔ اس کا ایک ٹکڑا مِسْكَة کہلاتا ہے۔ مِسْكُ الروم (ن): ایک پھول آور پودا۔ مِسْكُ البرّ و مِسْكُ الجن: پودے۔

۳۔ المسكين والمَسْكَنة: دیکھو مادہ (سکن)۔ المَسِيكة والمِسْكِية (ن): باغوں میں اگنے والا ایک پودا۔

مَسَكَ ـ مَسْكاً هُ/ب: کو لپک لینا، جھپٹ لینا، پکڑ لینا، چھین لینا، کو پکڑنے کی کوشش کرنا، کو قابو میں لانا، پر قبضہ کرنا، کو پکڑے رکھنا، پکڑے رہنا، کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ب: سے چمٹنا، چمٹ جانا، لگا رہنا، سے چپکنا، پر جمار ہنا، سے لٹکنا۔ مَسْكُ الحِسابات: حساب رکھنا۔ مَسَكَ دفّةَ الأمور: بر سر اقتدار ہونا، کا نگران ہونا۔ مَسَكَ لِسانَه: زبان پر قابو رکھنا۔

مَسَّكَ هُ: کو عطر (مشک) لگانا۔ هُ: کو پکڑنا، تھامنا۔ أمْسَكَ هُ/ب: کو پکڑنا، کو مٹھی میں لینا، کو زور سے پکڑنا، کو ہاتھوں سے جکڑنا، کو شوق سے قبول کرنا، کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ـــ هُ/هُ/ب من: کو سے زبردستی چھیننا۔ هُ من: کو بالوں وغیرہ سے پکڑنا۔ ـــ هُ/هُ عن: کو سے روکنا یا روکے رکھنا، کو سے قابو میں رکھنا، کو سے باز رکھنا۔ هُ: کو روک لینا، کو خرچ نہ کرنا، صرف نہ کرنا۔ ـــ عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، اجتناب کرنا، محترز رہنا، سے رکنا، کو نہ کرنا، کو ختم کرنا، کرنے سے رک جانا، سے دور رہنا، علیحدہ رہنا۔ ـــ هُ على نفسه: کو اپنے لئے رکھنا، کو اپنے پاس رہنے دینا۔ أمْسِك عليك: اپنے پاس رکھو! أمْسَكَ نفسَهُ واقفًا: اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھنا، کھڑا رکھنا۔ أمْسَكَ بيده: کو ہاتھ سے پکڑنا۔ أمْسَكَ يدَهُ: کا ہاتھ پکڑنا۔ أمْسَكَتْ عن الصُّدُور: (اخبار وغیرہ) کا بند ہو جانا، شائع ہونے سے رک جانا۔ أمْسَكَ لسانَهُ: زبان کو قابو میں رکھنا۔ أمْسَكَ البطن: قبض کرنا، قابض ہونا۔ تَمَسَّكَ ب: کو مضبوطی سے پکڑنا، کو کرتے رہنا، پر قائم رہنا، سے چمٹنا، چمٹ جانا، سے لگا رہنا، پر قائم رہنا، سے لپٹا رہنا، سے چمٹے رہنا، کو تھامے رہنا، پر جمار ہنا، ڈٹا رہنا، سے وابستہ رہنا۔ تَمَسَّكَ: (قیمتوں کا) چڑھنا، سخت ہونا، مستحکم ہونا۔ تَمَسَّكَ بأهْدابه: کا سب سے زیادہ جانثار، وفادار، وفا شعار یا وقف وفا ہونا، کے حکم کے ماتحت ہونا، کے زیر اثر ہونا، کے تابع فرمان ہونا۔ تَمَسَّكَ باهداب الشيء: سے چپکنا، پر جمار ہنا، سے لگا رہنا۔ تَمَسَّكَ برأيه: اپنی رائے پر قائم رہنا، جمار ہنا۔ تَماسَكَ: ایک دوسرے کو تھامے رہنا، مضبوطی سے مربوط ہونا، ایک دوسرے میں پھنسا ہونا، اپنے آپ پر قابو پانا، نڈر یا بے خوف رہنا، خاموش رہنا، پرسکون رہنا، جذبات پر قابو پائے ہونا، اپنے پاؤں پر رہنا، اپنی قوت پر مکمل قابض ہوا ـــ عن: سے باز رہنا، سے احتراز کرنا، اجتناب کرنا۔ اِسْتَمْسَكَ ب: سے چمٹا رہنا، سے لگا رہنا، کو پکڑنا، تھامنا، چھیننا۔ ـــ عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، سے دور ہونا۔ مَسْكُ الدفاتر: کھاتہ نویسی book keeping۔ مَسْكُ الحسابات: حساب رکھنا، حساب کتاب (accountancy)۔ مِسْك: (مذکر و مونث): مشک۔ مِسْكُ الختام: سرفراز کرنے والی فنکاری، وہ خوشبو جس سے خط کو بسایا گیا ہو۔ مِسْكَةٌ من...: کا کچھ، کی چاشنی، جھلک، مہک۔ مُمْسكة الأمل: جس سے امید وابستہ ہو۔

مُسْكان: زر پیشگی، بیعانہ، سائی، زرضمانت۔ مِسَاك: ڈمیم، پشتہ، بند، حاشیہ، کنارہ، گوٹ۔ مَسِيك: محکم، پکا، طامع، حریص، لالچی، بخیلانہ، پن روک (جس پر پانی اثر نہ کرے)۔ إمساك: قبض (بیماری) دن کا وقت جو رمضان کے روزہ کے آغاز کی حد بندی کرتا ہے۔ إمْساكِيَة: ماہ رمضان کے دوران روزوں کا کیلنڈر۔ قانونُ التَّمَسُّك: قرض کی ادائیگی میں مہلت یا اس کے التواء کا قانون۔ تَماسُك: پیوستگی، ربط، اتصال، چسپیدگی، ٹھوس پن، مضبوطی، استحکام، استقلال۔

مسل: مَسَلَ ـ مَسْلاً الماءُ: پانی کا بہنا۔ اِمْتَسَلَ السيفَ: تلوار سونتنا۔ المَسَل جمع أمْسِلَة و مُسُل و مُسْلان و مَسائل: پانی بہنے کی جگہ، نالی۔ المَسِيل جمع مُسُل و امْسِلَة: بہاؤ، دودھ یا دوہی کا پانی، پانی بہنے کی جگہ، نالی۔

۲۔ مُسالا الرجلِ: آدمی کے دونوں بازو یا داڑھی کے دونوں پہلو یا کنارے۔ مَسالَةُ الوجه: بیضوی چہرہ کا حسن۔ المَسِيل جمع مُسُل و أمْسِلَة: ترچھڑی۔

مسن: مَسَنَ ـ مَسْنًا الرجلَ: مخول کرنا۔ هُ: کو مار مار کر گرا دینا۔ الشيءَ من الشيء: چیز کو چیز سے کھینچ کر نکالنا۔

مسو: ۱۔ مَسا يَمْسُو مَسْوًا الحمارُ: گدھے کا چلتے چلتے اڑ جانا۔ ـــ و مَسَّى تَمْسِيَةً الرجلَ: کا وعدہ کر کے دیر لگانا۔ أمْسَى إمْساءً هُ: سے کسی کام وغیرہ کا وعدہ کر کے اس میں دیر لگانا۔

۲۔ مَسَّى تَمْسِيَةً هُ: کو دعا دینا کہ اس کی شام اچھی ہو، کو کہنا کہ اس نے شام کیسے گزاری۔ کہا جاتا ہے: مَسَّى به الليلُ: وہ شام کو آیا۔ أمْسَى إمْساءً و مُمْسًى: شام میں داخل ہونا، شام کو ہونا۔ كانَ: کی طرح ناقص کی طرح بھی مستعمل ہے جیسے: أمسى زيدٌ ضاحكا: زید شام کے وقت ہنسا یا ہنسا۔ المَساء جمع أمْسِيَة والمُمْسَى والمُسْيُ: شام، دوپہر کے بعد سے مغرب تک کا وقت۔ زوال شمس کا وقت، غروب شمس کا وقت۔ کہا جاتا ہے: يأتينا صباحَ مساءَ بمعنی يأتينا صباحاً و مساءً: وہ صبح اور شام کو ہمارے پاس آتا ہے۔ الأُمْسِيَّة: شام۔ کہا جاتا ہے: أتيتُهُ أُمْسِيَّةَ أمسِ: میں اس کے پاس کل شام آیا تھا۔ المُمْسَى (مص): شام گزارنے کی جگہ۔

۳۔ ماسَى مُماساةً هُ: کا مخول کرنا، کا تمسخر اڑانا۔

۴۔ أمْسَى إمْساءً هُ: کی کسی چیز سے مدد کرنا۔

۵۔ اِمْتَسَى اِمْتِساءً ما عند فلان: کا سب کچھ لے لینا۔

۶۔ المَسُوۃ: بکری کے بچے کے معدہ کا پنیر، سریانی زبان کا عام بول چال کا لفظ ہے۔ فصیح البِنفحَۃ و المِنحَۃ و الإنفحَۃ ہے۔

⊙ مَسَّاكَ الله بالخیر: شام بخیر۔ أَمْسَی: شام میں داخل ہونا، شام کو ہونا یا ہو جانا، ہونا، ہو جانا۔ یفعلہ اذا أَصْبَحَ و یفعلہ اذا أَمْسَی: وہ یہ صبح کو اور شام کو کیا کرتا ہے۔ مساءً: شام کو۔ مَسَاءَ أَمْسِ: کل (گزشتہ) شام، گزشتہ شب۔ مساء الخیر یا مَسَّاكُمْ بالخیر: شام بخیر۔ مَسَائی: شام کا، شام کے متعلق۔ الاخبار المسائیۃ: شام کی خبریں۔ أُمْسِیَۃ جمع اماسی: شام۔

مَسَی ـ مَسْیًا ہ: (گرمی کا) ڈھور ڈنگروں کو پتلا دبلا کرنا، گوشت نہ رہنے دینا، گھلانا، لاغر کرنا۔ مِسیو: مسٹر، سر (جناب) (فرانسیسی لفظ)۔

مسی: ۱۔ مَسَی یَمْسِی مَسْیًا الشیءَ: چیز پر ہاتھ پھیرنا۔ ــ الحرُّ الماشیۃَ: گرمی کا مویشیوں کو لاغر اور کمزور کرنا۔ ــ السیفَ: تلوار سونتنا۔ تَمَسَّی و تَمَاسَی الشیءُ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ التَّمَاسِی (مص): مصائب (اس کا مفرد نہیں)۔

۲۔ مَسَی یَمْسِی مَسْیًا الرجل: بد خلق ہونا۔ المَاسِی (فا): کسی کی نصیحت پر توجہ نہ دینے والا۔ رَجُل مَاسِی: پھرتیلا۔

۳۔ اِمْتَسَی اِمْتِسَا: پیاسا ہونا۔

مش: ۱۔ مَشَّ ـ مَشًّا الناقۃَ: اونٹنی کو دوہنا اور کچھ دودھ اس کے تھنوں میں چھوڑ دینا، کا سارا دودھ دوہ لینا۔ ــ مالَ فلان: کا مال تھوڑا تھوڑا کر کے لے لینا۔ ــ العظمَ: ہڈی کو طراف سے چوسنا۔ ــ یَدَہٗ: ہاتھ کسی چیز سے پونچھنا تا کہ چکنائی زائل ہو جائے۔ ــ الشیءَ: کو پانی میں حل کرنے کے لئے بھگونا۔ مَشَّشَ العظمَ: ہڈی چوس کر گودا نکالنا۔ أَمَشَّ العظمُ: ہڈی کا گودے والی ہونا۔ اِمْتَشَّ من مال فلان: کے مال سے کچھ حصہ پانا۔ ــ ما فی الضرع: تھن سے سب دودھ نکال لینا۔ ــ العظمَ: چبائی ہوئی ہڈی کو چوسنا۔ ــ الثوبَ: کپڑا اتارنا۔ اِنْمَشَّ لہُ الشیءُ: کو کچھ حاصل ہونا۔ تَمَشَّشَ العظمَ: ہڈی چوسنا اور اس کا گودا نکالنا۔ المُشَاش مُشَاشَۃ جمع: نرم زمین، اصل، نفس، طبیعت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لَیِّنُ المُشَاش: فلان خوش خلق ہے۔ المُشَاشَۃ جمع مُشَاش: نرم ہڈی کا سرا، خاک اور نرم سنگریزوں کا راستہ جس میں پانی بہنے لگے۔ مُشَاشَۃ القوم: قوم کے برگزیدہ لوگ۔ المَشّ (مص) کہا جاتا ہے: اطعمہٗ مَشًّا:

مَشًّا: اس نے اسے مزیدار غذا کھلائی۔ المَشُوش: رومال تولیہ وغیرہ۔

۲۔ مَشَّ ـ مَشًّا فلانًا: سے دشمنی کرنا، جھگڑا کرنا۔

۳۔ مُشَاش الرجلِ: سفر و حضر میں انسان کے نوکر اور خادم۔

۴۔ المَشَشُ: اونٹوں کی آنکھوں میں لاحق ہونے والی سفیدی۔ الاَمَشّ م مَشَّاءُ جمع مُشّ من الابل: اونٹ جس کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی ہو۔

۴۔ المِشْمِش: واحد مِشْمِشَۃ (ن): زرد آلو، خوبانی، زرد آلو، خوبانی کا درخت۔

⊙ مَشَّ ـ مَشًّا ہ: (ہڈی) کا مغز چوسنا، کوئی چیز پانی میں بھگو کر نرم کرنا، کو پانی میں بھگونا، تر بتر کرنا۔ مِشّ: دودھ یا دہی کا پانی، ماء الجبن۔ مَشُوش: رومال، دستپاک۔

مشج: مَشَجَ ـ مَشْجًا ہُ بکذا: کو سے ملانا، خلط ملط کرنا۔ مَشَجَ بینہما: اس نے ان دو چیزوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ المَشْج و المِشْج و المَشَج و المَشِیج جمع امشاج: ملا ہوا، مخلوط۔ الأَمْشَاج: ناف کا میل کچیل۔

مشح: اَمْتَشَحَتِ السماءُ: آسمان کا ابر سے صاف ہونا ــ ت السنۃُ: سال کا خشک اور دشوار ہونا۔ المَشْحَۃ عند المَسِیحین: مریض کو مقدس تیل ملنا۔ اسے مشحۃ المرضَی بھی کہا جاتا ہے۔ مَشَحَ المریضَ: مریض کو مقدس تیل ملنا۔ (سریانی لفظ)۔

مشر: ۱۔ مَشِرَ ـ مَشَرًا: خود پسند ہونا، خود نما ہونا، مغرور و متکبر ہونا۔ أَمْشَرَ بدنہٗ: ــ کے بدن کا پھولنا۔ ــ الرجلُ: کھل کر دوڑنا۔ الأَمْشَر: چست و چالاک۔

۲۔ مَشَرَ ـ مَشْرًا الشجرُ: درخت کا کونپلیں نکالنا۔ مَشَّرَ الشیءَ: کو تقسیم کرنا، متفرق کرنا۔ ــ الشجرُ: درخت کا کونپلیں نکالنا۔ ــ ہُ: کو پہنانا۔ أَمْشَرَتِ الارضُ: درخت کا کونپلیں نکالنا۔ أَمْشَرَ الشجرُ: درخت کا کونپلیں نکالنا۔ تَمَشَّرَ الرجلُ: دولتمند ہونا، کی دولتمندی کا اثر ظاہر ہونا ــ لأهلہ شیئًا: اپنے اہل کے لئے کمائی کرنا، کے لئے کمائی کرنا، کے لئے لباس خریدنا۔ ــ القومُ: کپڑے پہننا۔ ــ الشجرُ: درخت کا سرسبز ہونا، کونپلیں نکالنا۔ اِمْتَشَرَ الراعی ورقَ الشجر: چرواہے کا درخت کی ٹہنی کو ٹیڑھے سرے کی لکڑی سے مویشی کی طرف کھینچنا۔ ارضٌ مَاشِرَۃ: بارش سے سیراب سبزہ والی زمین۔ المَشْر: اثر۔ کہا جاتا ہے: اذہبہ مَشْرًا: اس نے اس کو گالی دی، اس کی ہجو کی اور اس کو بدنام کیا۔ المَشْرَۃ: نرم، کچی سبز ٹہنیاں، لباس، نیا نکلنے والا پتہ، لکڑی سے جھکائے ہوئے پتے، گھاس جو اونچی نہ ہوئی ہو۔ مَشْرَۃ الارض: زمین کی نباتات یا نئی نکلی ہوئی سبزی و نباتات۔ کہا جاتا ہے: علیہ مَشْرَۃ غنی: اس پر دولتمندی کا اثر ہے۔ مُشْرَۃُ الارض: زمین کی نباتات یا نئی نکلی ہوئی نباتات۔

۳۔ المِشْر من الرجال: سخت و سرخ آدمی۔

۴۔ المَوْشُور: اس کو "وشر" میں دیکھیں۔

مشط: ۱۔ مَشَطَ ـ مَشْطًا الشعرَ: بالوں میں کنگھی کرنا اور سلجھانا۔ ــ الشیءَ: کو مخلوط کرنا، ملانا۔ ــ البعیرَ: اونٹ کو کنگھی نما آلہ سے داغ لگانا۔ مَشِطَ ـ مَشَطًا ت الناقۃُ: اونٹنی کے دونوں پہلوؤں پر چربی کی بٹین پڑنا۔ مَشَّطَ الشعرَ: بالوں میں کنگھی کرنا اور سلجھانا۔ ــ ت الناقۃُ: اونٹنی کے دونوں پہلوؤں پر چربی کی بٹین پڑنا۔ اِمْتَشَطَ: بالوں کا کنگھی کیا جانا۔ ــ ت المرأۃُ: عورت کا اپنے بالوں میں کنگھی کرنا اور انہیں سلجھانا۔ المَشْط: کرگھا، جلاہے کی کنگھی نما کونچی، کنگھی کی شکل کا اونٹ پر نشان، کھریرا، پشت قدم کی پتلی پتلی ہڈیاں یا پشت پا۔ (ح): ایک دریائی مچھلی جسے البُلْطِیّ بھی کہتے ہیں۔ ــ و المُشْط و المِشْط و المَشَط و المُشُط جمع أَمْشَاط و مِشَاط: کنگھی۔ المِشْطَۃ: کنگھی کرنے کی ایک نوع۔ المِشَاقۃ: کنگھی کرنے کا پیشہ۔ المُشَاطَۃ: کنگھی کرتے ہوئے گرنے والے بال۔ المَاشِطَۃ: کنگھی کرنے کا پیشہ کرنے والی۔ المَشَّاط: کنگھی بنانے والا۔ المَشَّاطَۃ: کنگھی کرنے کا پیشہ کرنے والی۔ المَشِیط: کنگھی کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے: شعر مَشِیط و لِمَّۃ مَشِیط: کنگھی کئے ہوئے بال اور گھنگریالے بال۔ المُمْشَط: کنگھی۔ المَمْشُوط (مفع) رجل مَمْشُوط: پتلا دبلا مرد۔

۲۔ مَشِطَ ـ مَشَطًا ت یدُہٗ: ہاتھ کا کام کاج کرنے سے کھردرا ہونا یا پھانس چبھنا۔

⊙ مَشَطَ ـ مَشْطًا و مَشَّطَ: کنگھی کرنا۔ تَمَشَّطَ و امتشط: اپنے بالوں میں کنگھی کرنا۔ مُشْط جمع أَمْشَاط و مِشَاط: کنگھی، گھاس جمع کرنے کا آلہ، کھلانچہ، کھرنجا، جھکا، جیلی، کریدنی، کارتوس کا کلپ۔ مُشْط الرِجلِ: پاؤں کی چھت۔ مشط الید: ہتھیلی، کف دست۔ مُشْطِی: دانت دار، دندانہ دار، ناہموار، کنگھی نما۔ تمشیط: کنگھی کرنا، اون تومنا، دھننا۔ مَکْاشِط: نائی حجام، ہیئر ڈریسر۔ مَاشِطَہ: خادمہ، نائن۔ مُمَشَّط: کنگھی کیا ہوا، تومی ہوئی، دھنی

ہونٹ (ہوں) لگ۔
منط: مَنَطَ ـ مَنْطًا فلانًا: سے کچھ لینا۔ مَنِطَ لہ ـ مَنَطًا و مُنُوطًا: کانٹے وغیرہ کا چبھنا۔ کہا جاتا ہے: مَنِطَتْ یدُہٗ: اس کے ہاتھ میں کرچ لگ گئی۔ المَنْطُ و المَنْطَۃ: ہاتھ میں چبھا ہوا کانٹا وغیرہ، کلہاڑی کے دستے میں لگائی ہوئی لکڑی کی کھپچی۔ المَنْطَۃ: ایک بار۔ قَدَّ مَنْطَۃ: نیزہ کا لوہے کا ٹکڑا جو پکڑنے والے کے ہاتھ میں چبھ جائے۔
۲۔ منط ـ مَنْطًا ـ بلد: کسی شہر کو اقامت کے لئے پسند کرنا۔
۳۔ منیع ـ مَنَعًا و مَنَطَتِ الدابّۃُ: جانور کا نمایاں پٹھوں والا ہونا۔ مَنْطُہٗ من الاحد: ... بے بنیاد افواہیں۔
منع: ۱۔ مَنَعَ ـ مَنْعًا الشیءَ: کو مانگنا، اچک لینا۔ ـ العنز: بکری کا دودھ دینا۔ مَنَعَ الفصعۃ: پیالہ میں سے سب کچھ چٹ کر جانا۔ مُنْتَع تُنُوتَ صاحبہ: ساتھی کے کپڑے چرا لینا۔ ـــ مافی الضرع او ما فی ید فلان: تھنوں کا سارا دودھ نکال لینا، کے ہاتھ میں جو کچھ ہو اسے لے لینا۔ ـــ السیف: جلدی سے تلوار سونتنا۔ المَشُوع: بہت کماؤ۔ ذِئبٌ مَشُوع: بکری وغیرہ اچک لیجانے والا بھیڑیا۔
۲۔ مَشَعَ ـ مَشْعًا القطنَ: روئی دھننا۔ المَشْعۃ والمَشِیعۃ: دھنی ہوئی روئی کا گالا۔
۳۔ مَشَعَ ـ مَشْعًا ببولہ: پیشاب کرنا ـ فلانًا بالحبل وغیرہ: کوڑی وغیرہ سے مارنا۔
۴۔ مَشَعَ ـ مَشْعًا الرجلُ: آہستہ چال چلنا۔
۵۔ مَشَعَ الشیءَ: کو صاف کرنا، پونچھنا۔ تَمَشَّعَ و اِمْتَشَعَ الرجلُ: تکلیف کو اپنے آپ سے دور کرنا۔
مشغ: مَشَغَ ـ مَشْغًا ہ: کو مارنا، پر عیب لگانا۔ ـــ الرجلُ: ککڑی وغیرہ کی طرح کا آہستہ آہستہ کھانا۔
۲۔ مَشَغَ عِرضَ فلان: کی عزت پر داغ لگانا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کو سرخ مٹی سے رنگنا۔ المَشْغ: سرخ مٹی۔ المِشْغۃ: پرانے بوسیدہ کپڑے کا چیتھڑا۔
مشق: ۱۔ مَشَقَ ـ مَشْقًا: تیزی سے نیزہ مارنا، کام جلدی سے کرنا ـ الشعرَ: بالوں میں کنگھی کرنا۔ ـ الثوبَ: کپڑا اپھاڑنا۔ ـ الکتانَ و نحوہٗ: کتان اور دوسرے کپڑوں کو آلہ میں کھینچ کر صاف کرنا۔ ـــہٗ بالسوط: کو کوڑے سے مارنا۔ ـ الشیءَ: کو لمبا کرنے کے لئے کھینچنا۔ ـــ الناقۃَ: اونٹنی کو تھوڑا سا دوہنا۔ ـــ فی الکتابۃ: لمبے لمبے حروف لکھنا، جلدی جلدی لکھنا۔ کہا جاتا ہے: مَشَقُوا رحیلَھم: روانہ ہونے میں

مَشِقَ ـ مَشَقًا: جلدی کرنا۔ رانوں کے رگڑنے سے سوزش ہونا۔ صفت مَشِق و مُشَق۔ اسم: المُشْقۃ۔ مَشِقَ مَشْقًا: پتلا ہونے کے ساتھ لمبا ہونا، پتلا اور لمبا ہونا، دبلا پتلا اور لاغر ہونا۔ صفت مَشَق و مَشِیق و مَمْشُوق۔ مَشَقَ تَمْشِیقًا لاس انکلا ...
مَاشَقَ مُمَاشَقَۃً ہٗ: کو گالی دینا، سے جھگڑا کرنا۔ ـــہٗ الشیءَ: سے چیز کو کھینچنے میں مقابلہ کرنا۔ اَمْشَقَ ہٗ بالسوط: کو کوڑے مارنا۔ تَمَشَّقَ الغصنُ: شاخ کا چھلنا۔ ـ الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ ـ اللیلُ: رات کا گزر جانا۔ تَمَاشَقُوا الشیءَ: کو آپس میں کھینچنا۔ اِمْتَشَقَ: چرانا، اچک لینا۔ ـــ فی الشیءِ: میں داخل ہونا۔ ـــ ما فی الضرع: تھن کو پورا دوہ لینا۔ ـــ السیفَ: تلوار سونتنا۔ ـــ الکتانَ: کتان کو آلہ میں کھینچ کر صاف کرنا۔ ـــ الشیءَ: کو مخصوص کرنا۔ ـــ ما فی ید الرجل: کے ہاتھ کی سب چیزیں لے لینا۔ المَاشِق جمع مُشُق۔ لا ـ المَشَق (مض): فی فلکہ مَشَقٌ: کہا جاتا ہے: وہ دبلا پتلا اور لمبا ہے۔ المَشْقۃ: جانور کے پاؤں میں رسی کا نشان، ایک بار۔ جمع مِشَق۔ ـــ و المُشَاقۃ: روئی وغیرہ کا گالا، بوسیدہ کپڑا۔ جمع مِشَق۔ المُشْقَۃ: کتان وغیرہ کا نکلا ہوا خراب ورد ی حصہ۔ نئے کپڑے کا ٹکڑا۔ قلم مَشَّاق: تیز چلنے والا قلم۔ المَشِیق: پہنا ہوا کپڑا۔ ـــ من الخیل: لاغر و دبلا گھوڑا۔ التَمَاشُق: جھگڑا۔ المَمْشُوق م مَمْشُوقۃ (مفع): کم گوشت مرد۔ ـ من الخیل: لاغر گھوڑا۔ ـــ من القضبان: لمبی اور پتلی کٹی ہوئی شاخ۔ ـ قد مَمْشُوق: لمبا پتلا قد۔ المِمْشَقۃ جمع مَمَاشِق: کتان وغیرہ کو صاف کرنے کا آلہ جو کنگھی کے مشابہ ہوتا ہے۔
۲۔ اَمْشَقَ الثوبَ: کپڑے کو سرخ مٹی سے رنگنا۔ المُشْق: سرخ مٹی۔ ثوب مِشْق و مُمَشَّق و اَمْشَاق: سرخ مٹی سے رنگا ہوا کپڑا۔
مَشَقَ ـ مَشْقًا ہ: کو کھینچنا، تاننا، پھیلانا، بڑھانا، لمبا کرنا، وسیع کرنا، میں کنگھی کرنا، کو پھاڑنا، چیرنا، چاک کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پرزے پرزے کرنا، کی دھجیاں اڑانا۔ ـــــ ہٗ: کو کوڑے مارنا، چابک مارنا۔ تَمَشَّقَ: پھٹنا، چرنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پرزے پرزے ہونا۔ اِمْتَشَقَ ہ من: سے کو چھین لینا، جھپٹنا۔ ـــ ہ: تلوار سونتنا۔ مَشْق: نمونہ خصوصا لکھنے میں جس کی نقل کی جائے۔ مِشْق: دبلا پتلا، نازک اندام، نازک۔ مُشَاقۃ جمع مُشَق: روئی یا اون کا گالا، چیتھڑا

دھجی، پونچھن، صافی، دھنی ہوئی اون کی ردی، سن کی ردی، پرانے رسوں کا سن۔ مَمْشُوق: دبلا پتلا، نازک، نازک اندام۔ مُشَاق: سن کی ردی، پرانے رسوں کا سن، پٹ سن کا ریشہ۔ مُشَاقَۃ: کوئی کی ردی، پرانے رسوں کا سن، پٹ سن کا ریشہ۔ مُشَاقَۃ حریر: ریشم کی ردی۔ مِشَّیق: کاری کا ریشمی دھاگہ۔ مَمْشُوق: نزاکت ... مَمْشُوقۃ القوام: نازک، دبلا پتلا، نازک اندام۔ ... چھڑی جیسا پتلا دبلا۔
مشل: مَشَلَ ـ مَشْلًا لحمُہٗ: کم گوشت والا ہونا۔ ـ مَشَلًا اللبنُ: تھوڑا تھوڑا دودھ دوہنا۔ ـــ السیفَ: تلوار سونتنا۔ المَاشِل: لاغر کم گوشت والا۔ المَشَل: کم دوہائی۔ المِمْشَل: نرمی سے دودھ دوہنے والا۔ المَمْشُون: نرمی سے دودھ دوہنے والا۔ المَمْشُول: لاغر کم گوشت والا۔
۲۔ المِشْمِش (ن): میٹھی گٹھلی کا زردآلو، خوبانی۔ (مشمش ولوز کا مرکب ہے)
مشن: مَشَنَ ـ مَشْنًا ہ: کو خراشیں لگانا۔ ـــہٗ بالسوط: کو کوڑے مارنا۔ ـــہٗ بالسیف: تلوار سے ضرب لگا کر کھال چھیل دینا۔ ـ الناقۃَ: اونٹنی کا سارا دودھ دوہ لینا۔ مَشَنَتِ الناقۃُ: اونٹنی کا بے دلی سے دودھ دینا۔ صفت مَاشِن جمع مُشُن۔ تَمَاشَنَا جلدہ: کہا جاتا ہے: الطرفان: دونوں نے ایک دوسرے کو غلیظ ترین گالیاں دیں۔ اِمْتَشَنَ الناقۃَ: اونٹنی کے تھنوں کا سب دودھ نکال لینا۔ ـــــ السیفَ: تلوار سونتنا۔ ـــــ الشیءَ: کو چھین لینا اور اپنے لئے مخصوص کرنا۔ ـ ثوبَہٗ: کا کپڑا اتارنا۔ المِشَان و المُشَان: تازہ کھجوروں یا عمدہ کھجوروں کی ایک قسم۔
مشو: اِسْتَمْشَی الرجلُ: دست آور دوا پینا۔ کہا جاتا ہے: استمشی بکذا: اس نے مسہل لیا۔ المَشْو و المَشُوّ و المَشِیّ و المَشَاء: دست آور دوا۔
مشی: ۱۔ مَشَی ـ مَشْیًا و تَمْشَاءً: چلنا (پاؤں پر) تیز یا آہستہ۔ ـ من مکان الی مکان: ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر جانا۔ ـــ بطنُہٗ مَشَاءً: کو اسہال ہونا، دست آنا۔ ـــ بالنمیمۃ: چغلی کھانا۔ مَشَّی تمشیۃً: چلنا۔ ـــ ہٗ: کو چلانا، چلا کر لیجانا۔ ـــ الرجلَ: الدواءُ: کو دوا کا دست لانا۔ مَاشَی مُمَاشَاۃً ہٗ: کے ساتھ چلنا۔ تَمَشَّی: چلنا۔ تَمَاشَیَا: دونوں کا اکٹھا چلنا، ساتھ مل کر چلنا۔ المِشْیَۃ: چلنے کی ہیئت اور طرز۔ المَاشِی جمع مُشَاۃ و مَاشُون (فا): چلنے والا۔ المُشَّاء: چغلی کھانے والا۔ المُشَاۃ فی العسکر: پیدل (چلنے والے) سپاہی۔ مقابل لفظ:

الحیالة: گھڑسوار سپاہی۔ الماشیة جمع مَوَاشٍ: ماشی کا مؤنث۔ المَشَّاء: بہت چلنے والا، چغل خور۔ المَشَّاؤون: ارسطو کے (فلسفہ کے) پیروکار (جو چلتے چلتے تعلیم دیا کرتا تھا)۔ المَشَّائیة: ارسطو کا فلسفہ۔ المَمْشَی جمع مَمَاشٍ: چلنے کی جگہ، گزرگاہ، راستہ، ڈیوڑھی کا راستہ، غلام گردش، فٹ پاتھ، بین الصفوف راستہ، پگڈنڈی، گلی، کوچہ، سیرگاہ، گشت گاہ۔

۲۔ مَشَی -مَشْیًا و تَمْشَاءً: بہت مویشیوں والا ہونا — مَشَاءَت المرأة او الماشیة: عورت یا مویشی کا بہت بچوں والی ہونا۔ اَمْشَی: بہت بچوں والے مویشیوں والا ہونا۔ الماشِی: مویشی والا۔ المَاشِیَة جمع مَوَاشٍ: مویشی (اونٹ، گائیں، بکریاں)۔

۳۔ مَشَی -مَشْیًا و تِمْشَاءً زیدٌ: ہدایت پانا۔ اسم: المِشْیَة۔

۴۔ المَشِیَّة: مشیت یعنی ارادہ۔

◌ مَشَی -مَشْیًا: پاؤں پر جانا، چلنا، چہل قدمی کرنا، ڈگ بھرنا، جگہ بدلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، آگے بڑھنا، کوچ کرنا۔ مَشَی بالنمیمة: تہمت آمیز افواہیں پھیلانا۔ مَشَّی ہ: کو جانے یا چلنے دینا، کو لیجانا یا چلانا۔ —ہ مع: کو کے مطابق کرنا، موافق کرنا، کو کے ہم آہنگ کرنا، موافق یا مطابق بنانا۔ مَاشَاہ: کے برابر چلنا، سے قدم ملانا —د/ہ: کے ساتھ جانا، کا ساتھ دینا، کی رفتار سے چلنا، —ہ: کے ساتھ ساتھ یا بدوش رہنا، کے ساتھ رہنا، —ہ فی: میں کسی کا ہم خیال ہونا، میں کسی کے خیالات یا اصولوں سے رہنمائی حاصل کرنا، میں سے مل کر یا اس کے ساتھ ہم آہنگی سے کام کرنا۔ اَمْشَی بمعنی مَشَّی۔ نیز اَمْشَاہُ: دوا کا کسی کے لئے دست آور ہونا۔ تَمَشَّی: پاؤں پر جانا، چلنا، چہل قدم کرنا، ہواخوری کرنا، ٹہلنا، سیر کرنا، پھرنا، • آہستہ چلنا، سرگشت کرنا، ٹہلتے پھرنا، —مع: سے ہم آہنگ ہونا، کے موافق یا مطابق ہونا، کے مناسب یا موزوں ہونا، پر پھبنا، سے میل کھانا، پر ٹھیک ہونا، موزوں ہونا، برمحل ہونا، کا جوڑ ہونا، کے مشابہ ہونا، پر پورا اترنا۔ — علی: کے مطابق چلنا، آگے بڑھنا، (اصول وغیرہ) کا اتباع کرنا، کی فرمانبرداری کرنا۔ تَمَشَّی فی اوصالہ: احساس وغیرہ کا کسی کے اعضا میں نفوذ کرنا۔ تَمَشَّی جِیئَةً وَ ذَهَابًا: ٹہلنا، ادھر سے ادھر چلنا، آگے پیچھے چلنا۔ مَشُو: قبض کشا دوا، مُلَیِّن۔ مِشْیَة: چلنے کا انداز، چال، چال ڈھال، قدم، رفتار، وضع، رویہ، وطیرہ، طریقہ، انداز، چلنے کا ڈھب مَشَّا جمع مَشَّاؤون: اچھا چلنے والا، چلنے والا۔ مَشَّایَة جمع مَشَّایات: لمبا اور تنگ قالین، بے بی واکر، baby walker۔ ڈیوڑھی کا راستہ، غلام گردش، بین الصفوف راستہ پگڈنڈی، فٹ پاتھ، گزرگاہ۔ مَمْشَی جمع مَمَاشٍ: ڈاوڑھی کا راستہ، غلام گردش، بین الصفوف راستہ، گزرگاہ، فٹ پاتھ، پگڈنڈی، گلی، کوچہ، سیرگاہ، گشت گاہ، چوراہا، پل، بالائی پلی، بحری جہاز کا پل، چھوٹا کمبل۔ تَمَشِّیًا مع: کی تعمیل میں، کے مطابق۔ ماشٍ جمع مُشَاة: جانے والا، چلنے والا، پیدل (چلنے والا)، پیدل فوجی انفنٹری کا فوجی۔ المُشَاة: پیدل فوج، پیادہ فوج (infantry)۔ ماشیًا: پیدل (چلتے ہوئے) مَاشِیَة جمع مَوَاشٍ: ڈھور ڈنگر، مال مویشی (livestock)۔

مصّ: ۱۔ مَصَّ -مَصًّا و تَمَصَّصَ و امْتَصَّ الشیءَ: کو چوسنا۔ اَمَصَّہُ اللبنَ: کو دودھ چسانا۔ المَصّ (مص) قَصَبُ المصّ (ن): گنا، نیشکر۔ المُصَّة والمُمَاص من الشیء: منتخب یا خالص چیز، سب سے اہم بات۔ فلان کریمُ المُصَاصِ و مُصَاصُ قومہ: فلاں شخص اپنی قوم میں سب سے خالص النسب ہے۔ (واحد، تثنیہ، جمع مذکر اور مؤنث یکساں ہیں)۔ المُصَاصَة: چوسی جانے والی چیز۔ المَصَّاص: بہت چوسنے والا، پچھنے لگانے والا، سینگی لگانے والا۔ المَصَّان: پچھنے لگانے والا، سینگی لگانے والا، کمینہ، لئیم، کمینہ پن کی وجہ سے بھیڑ بکریوں کے تھنوں پر منہ لگا کر چوسنے والا مرد کو یامَصَّان اور عورت کو یامَصَّانة کہہ کر گالی دی جاتی ہے۔ المُصَّان (ن): گنا، نیشکر۔ المَصُوص جمع مَصَائص: سرکہ میں ڈالا جانے والا پکا ہوا گوشت۔ المَصِیص (ت): مضبوط دھاگوں کی ایک قسم۔ لمَصِیصَة: پیالہ۔ المِمَصّ: چوسنے کا آلہ۔

۲۔ مَصْمَصَ الماءَ: پانی کو زبان سے ہلانا — الثوبَ: کپڑا دھونا۔ المُصَامِص: خالص چیز۔ کہا جاتا ہے: انہ لَمُصَامِصٌ فی قومہ: وہ خالص حسب نسب والا ہے۔

◌ مَصَّ -مَصًّا ہ: کو چوسنا، کی چسکی لگانا، کو سڑکنا، کا سڑپا لگانا، کو چپڑ چپڑ پی جانا، کو چاٹنا، کو بھگونا، کو جذب کرنا، نچوڑنا۔ تَمَصَّصَ ہ: کی آہستہ آہستہ چسکیاں لگانا، کو چھوٹی چھوٹی چسکیوں میں پینا۔ اِمْتَصَّ ہ: کو چوسنا، کی چسکیاں لگانا، کو سڑکنا، کا سڑپا لگانا، کو چپڑ چپڑ پی جانا۔ کو چاٹنا، کو بھگونا، تربتر کرنا، پی لینا، جذب کرنا، ہڑپ کرنا۔ مَصَّاص: چوسنے والا، پچھنے لگانے والا، سینگی لگانے والا، خون چوسنے والا، خون آشام دھمکی سے یا جبراً لینے والا، سودخور بنیا مہاجن۔ مَصَاصَة القصب: گنے کا چورہ۔ مَصَّاصَة: زور سے چیخنے والا الو، سوتوں کا خون چوسنے والی بلا (vampire)۔ مَصِیص: نیم گیلا، تربھیگا، ہوا مرطوب، سیلا (میدان وغیرہ)۔ مِصِّیص: ڈوری، رسی، تتلی۔ مِمَصّ: پچکاری کی نالی، چوسنے کی نالی، سیفن، خمدار نلکی۔ اِمْتِصَاص: چوسنا، جذب کرنا، خلا پیدا کر کے کھینچنا یا ملانا، کشش، بھیگنا یا بھگونا، تر بتر کرنا یا ہونا، جذب کرنا، پی جانا۔ قوة الامتصاص: کشش، خلا پیدا کر کے کھینچنے یا ملانے کی قوت۔ مَمْصُوص: بھیگا ہوا، تربتر کیا ہوا، نالی یا پمپ کے ذریعے نکالا ہوا، خالی کیا ہوا، دبلا کیا ہوا، لاغر کیا ہوا، کھلا ہوا، بہت کمزور، دبلا پتلا۔ مُمْتَص: بھگونے والا، تربتر کرنے والا، جذب کرنے والا، پی جانے والا، چوسنے والا، جاذب، کھینچنے والا۔

مصح: ۱۔ مَصَحَ -مَصْحًا و مُصُوحًا الشیءُ: جاتا رہنا، منقطع ہونا۔ —بالشیء: کو لے جانا —ت الدارُ: گھر کا نشان مٹ جانا۔ — الثوبُ: کپڑے کا پرانا ہونا۔ — النباتُ: شگوفہ کا مرجھانا۔ — الکتابُ: کتاب کا مٹنا — لبنُ الناقة: اونٹنی کے دودھ کا سوکھ جانا — اللہُ مرضَك: اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری دور کرے — و مَصِحَ -مَصَحًا الظلُّ: سایہ کا چھوٹا اور پتلا ہونا صفت اَمْصَح۔ اَمْصَحَ اللہ مَرَضَكَ: اللہ تعالیٰ تیری بیماری دور کرے۔

۲۔ المُصَاحات: بھوسے سے بھری ہوئی اونٹنی کے بچوں کی کھالیں۔

مصخ: مَصَخَ -مَصْخًا الشیءَ: کو کھینچنا۔ تَمَصَّخَ الشیءَ: کو کھینچ کر نکالنا۔ اِمْتَصَخَ الشیءَ: کو کھینچ کر نکالنا۔ —الشیءُ عن الشیء: چیز کا چیز سے جدا ہونا، علیحدہ ہونا۔ اِمْصَخَ الولدُ: بچہ کا ماں کے پیٹ سے جدا ہونا۔ المُصَّاخ (ن): ایک پودا جس کے چھلکے پیاز جیسے ہوتے ہیں۔ المَصُوخَة: بکری جس کے تھن کی جڑ ڈھیلی پڑ گئی ہو۔ الأُمْصُوخة جمع اُمْصُوخ و اَمَاصِیخ: بردی سفید گھاس کا گودا، ایک قسم کی گھاس کا پتہ جو لمبی نہیں ہوتی۔ ایک قسم کا عمدہ چارہ۔

مصد: ۱۔ مَصَدَ -مَصْدًا الصبیُّ لدیَ امہ: بچہ کا ماں کے پستان سے دودھ پینا — الشیءَ: کو چوسنا۔

۲۔ مَصَدَ -مَصْدًا الرجلَ: کو مطیع و فرمانبردار کرنا۔

۳۔ المَصَاد جمع اَمْصِدَة و مُصْدان: بلند پشتہ، پہاڑی، پہاڑ کی چوٹی۔ المَصْد و المَصَد: گرمی کی شدت، سردی کی شدت، رعد اور بارش، اونچی پہاڑی۔ المَصْدَة: بارش۔ کہا جاتا ہے: ما اصابتنا مَصْدَة: ہمارے علاقہ میں بارش نہیں ہوئی۔

مصر: ۱۔مَصَرَ ـمَصْراً الناقةَ: اونٹنی کو انگلی کے پوروں سے دوہنا۔مَصَّرَ العطيّةَ: بخشش کو بند کرنا یا تھوڑا تھوڑا کر کے دینا۔تَمَصَّرَ الشیءُ او العطاء: چیز کا یا عطاء کا کم ہونا۔ ــــ الناقةَ: اونٹنی کو انگلیوں کے پوروں سے دوہنا۔اِمْتَصَرَ الناقةَ: اونٹنی کو انگلی کے پوروں سے دوہنا۔ناقةٌ او شاة مَاصِرٌ: کم دودھ والی اونٹنی یا بکری یا وہ اونٹنی یا بکری جس کا دودھ دیر سے نکلتا ہے۔المَصُور جمع مِصَار و مَصَائر من الابل او الشاء: تھوڑا دودھ یا دیر سے دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری۔عطاءٌ مَصُور: کم بخشش۔

۲۔مَصَّرُوا المكانَ: کسی جگہ کو شہر بنانا۔تَمَصَّرَ المكانُ: جگہ کا شہر بن جانا۔ــــ القومُ: قوم کا پراگندہ ہونا۔ــ الشیءَ: کے پیچھے لگنا، کو تلاش کرنا۔المَاصِر (فا) دو چیزوں کے درمیان کی روک۔المِصْر جمع أَمْصَار و مُصُور. دو چیزوں کے درمیان کی روک۔ دو ملکوں کے درمیان کی سرحد، شہر، ملک، علاقہ۔ مِصْر: مصر (ایک ملک کا نام)۔المِصْران: کوفہ و بصرة۔المِصْرِی م مِصْرِيَّة جمع مَصَارٍ و مَصَارِیّ: مصر سے منسوب۔کہا جاتا ہے۔حُمُرٌ مَصَارٍ و مَصَارِیٌّ: مصری گدھے۔

۳۔مَصَّرَ الثوبَ: کپڑے کو سرخ مٹی سے رنگنا یا گیرو رنگ دینا۔المِصْر: سرخ مٹی۔المُمَصَّر: گیرو سے رنگا ہوا۔المُمَصَّرة۔ مُمَصَّر کا مؤنث۔

۵۔المَصِير جمع أَمْصِرة و مُصْران و جج مَصَارِين (ع ا): آنت۔المُمَصَّرة: کتے ہوئے سوت کا گولا۔

◯ مَصَّرَ ہ: کسی جگہ کی بنیاد رکھنا، کو تعمیر کرنا، میں رہنے لگنا، آباد ہونا، کو نو آبادی بنانا، میں آباد کاری کرنا، کو مصری بنانا۔تَمَصَّرَ: ایک آباد اور متمدن و مہذب علاقہ ہو جانا، ایک بڑا شہر ہو جانا، عروس البلد ہو جانا، مصری ہو جانا، مصری طریقے اختیار کرنا، مصری بن جانا۔مِصْر جمع أَمْصَار: بڑا شہر، عروس البلاد، دارالحکومت، مصر (عام بول چال میں مصر): قاہرہ۔ مصر القاهرة: قاہرہ مصر الجديدة: ہیلیو پولس (قاہرہ کا نیا حصہ)۔مصری: قاہری مصری، مصر کا مصر سے متعلق جمع مصريون: مصری، قاہرہ کا باشندہ۔ مِصْرِيَة: مصریت۔مصر کا قومی کردار جمع مِصْرِيَات: مصری عورت یا لڑکی۔مصير جمع أَمْصِرَة و مُصْران و مَصَارِين: آنتیں، معدہ، أمعا جمع آنتیں، امعا، اوجھڑی۔تمصير: آبادی کاری کرنا، نو آبادی، آباد کاری، استعمار، تہذیب، تمدن، مصری بنانا۔مُتَمَصِّر: مصری بنا ہوا، مصر میں توطن ہوا۔

مصط: مَصْطَكَ الدواءَ: دوا میں مصطگی ملانا۔ المَصْطَكَى والمُصطَكَى والمُصْطَكاء (ن): مصطگی کا درخت جس سے گوند نکالی جاتی ہے۔

◯ مَصْطَكَاء و مُصْطَكَاء و مَصْطَكَى: مصطگی، مصطگی درخت کی گوند یا رال، مصطگی سے کشید کیا ہوا عرق۔ شَجَرَةُ المُصْطَكاء: مصطگی کا درخت۔

مصع: ۱۔مَصَعَ ـمَصْعًا البرقُ: بجلی کا کوندنا، چمکنا۔ ـت الدابةُ بِذَنَبِها: جانور کا دم ہلانا۔ــــ فُلانًا: کو کوڑے وغیرہ سے مارنا۔ــــ الفرسُ: گھوڑے کا ہلکی رفتار سے گزرنا۔ــــ الطائِرُ بذرقه: پرندے کا بیٹ کرنا۔ــت المراة بالولد: عورت کا بچہ گرانا۔ــــہُ: کی تربیت کرنا، کو تجربہ کار بنانا۔مَاصَعَ مِصَاعًا و مُمَاصَعَةً: جنگ کرنا، قتال کرنا۔قِرْنَهُ: مقابل کو تلوار وغیرہ سے مارنا۔ــ بلسانِهِ: پر تہمت لگانا۔أَمْصَعَ الطائِرِ بذرقه: پرندے کا بیٹ کرنا۔ــت المراة بولدها: عورت کا بچہ گرانا۔تَمَاصَعَ القومُ فی الحرب: آپس میں جھگڑنا، باہم جنگ کرنا۔اِنْمَصَعَ الحمارُ: گدھے کا اپنے کانوں کو کھڑا کرنا۔المَاصِع (فا) م مَاصِعَة: چمکیلا۔المَصْع (مص): ہانکنا۔ المَصِع: تلوار سے لڑنے والا۔

۲۔مَصَعَ ـمَصْعًا فؤادُ فُلان: خوف یا جلدی سے دل کا پراگندہ ہونا۔ــــ مُصُوعًا الرجُلُ فی الارض: زمین میں دور تک چلے جانا۔ــ لبنُ الناقة: اونٹنی کے دودھ کا خشک ہونا یا کم ہونا۔مَاصِع و ماصعة: خشک یا کم دودھ والی اونٹنی۔ــ ماء الحوض: حوض کا پانی کم ہو جانا۔أَمْصَعَ القومُ: بے دودھ اونٹنیوں کا مالک ہونا۔ــت المراة ولدَها: عورت کا بچے کو دودھ کم پلانا۔اِنْمَصَعَ فی الارض: زمین میں جانا، سفر کرنا۔اِمْتَصَعَ فی الارض: زمین میں جانا، سفر کرنا۔المَاصِع م ماصِعَه: پشت پھیرنے والا، تھوڑا اور گدلا۔المَصُوع: ڈرپوک۔

۳۔مَصَّعَ القضيبَ: کاٹی ہوئی شاخ پر چھلکا سوکھنے کے لئے رہنے دینا۔

۴۔أَمْصَعَ العوسجُ: عوسج درخت کا پھل لانا۔المُصْعَه والمُصَعَة جمع مُصَع و مُصَع (ز): عوسج درخت کا پھل۔

۵۔أَمْصَعَ لفلانٍ بحقِّهِ: کے حق کا اقرار کرنا۔

۶۔الماصِع م ماصِعَة: کھارا پانی۔المَصِع: کوڑے سے کھیلنے والا لڑکا۔المُصْعَة والمُصَعة جمع مُصَع و مُصَع (ح) ایک چھوٹا پرندہ۔

مصل: مَصَلَ ـمَصْلاً اللبَنَ: پانی ٹپکانے کے لئے دودھ کپڑے میں لٹکانا۔ــ مالَهُ: بے خیر کاموں میں مال خرچ کرنا۔ ــــ مَصْلاً و مُصُولاً الجبنُ و نحوُهُ: پنیر وغیرہ کا ٹپکنا۔ــــ الجرحُ: زخم کا رسنا۔ أَمْصَلَ الغنَم: بکری کا سارا دودھ دوہنا۔ــ مالَهُ. مال کو بے فائدہ خرچ کرنا، لغویات میں اڑانا۔ــــت المراةُ: عورت کا قبل از وقت بچہ گرا دینا، ادھورا بچہ گرانا۔صفت مُمْصِل۔ المَصْل (مص) من اللبن و نحوہ: دودھ وغیرہ سے ٹپکا ہوا پانی۔ (طب): ایک سیال دواء جو انجکشن لگانے کے کام آتی ہے۔المَصَالة، بمعنی مَصْل المُصَالَة بمعنی مَصْل ـ مٹکے وغیرہ سے ٹپکا ہوا پانی۔الماصِل (فا): تھوڑا دودھ یا بخشش۔المَصْلاء: پتلے بازوؤں والی عورت۔المِمْصَل: دودھ سے پانی ٹپکانے کا برتن۔ لغویات میں مال برباد کرنے والا۔

◯ مَصَلَ ـمَصْلاً: دہی جمنا۔......ہ: کو چھاننا، کو فلٹر کرنا، ٹپکانا۔مَصْل: دودھ یا دہی کا پانی۔ماء الجبن جمع مُصُول: ماء الدم، جو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔سیرم (serum)۔مَصْلِی: پتلا، رقیق، لعابی سا (serous)۔خوناب سے مشابہ۔

مض: ۱۔مَضَّ ـمَضًّا و مَضِيضًا الجرحُ فلانًا: کو زخم کا تکلیف دینا، درد میں مبتلا کرنا۔ــ الكحلُ العينَ بمدَّتِهِ: سرمے کا آنکھ دکھ دینا اور آنکھ میں سوزش پیدا کرنا۔ــــ الخلُّ فاهُ: سرکہ کا منہ کو جلانا۔ــــ مَضًّا الشیءُ فلانًا: چیز کا کسی کو دکھ پہنچانا۔ــ مَضَضًا من الشیء: سے دردمند ہونا۔ــــ مَضَضًا و مَضَاضَةً و مَضِيضًا: کسی مصیبت سے دکھی ہونا۔ کہا جاتا ہے مَضِضْتُ للامر: مجھے اس بات پر دکھ ہوا۔مَضَّضَ تمضيضًا: ترش دودھ پینا، کھارا پانی پینا۔مَاضَّ مِضَاضًا ہُ: کو لعنت ملامت کرنا۔أَمَضَّ ہُ الامرُ: کو کسی بات کا جلانا اور اس پر گراں گزرنا۔ــــہُ الجرحُ و نحوهُ: کو زخم وغیرہ کا تکلیف دینا، درد میں مبتلا کرنا۔کہا جاتا ہے أَمَضَّنِی کلامُ فلان: مجھے فلاں شخص کی گفتگو سے تکلیف ہوئی۔ــــہُ جلدُهُ: کو کھجلی ہونا۔تَمَاضَّ القومُ: آپس میں جھگڑنا۔ المَضّ: مص۔ کحلٌ مَضٌّ: تیز اور تکلیف دہ سرمہ۔رجُلٌ مَضُّ الضرب: تکلیف دہ ضرب والا۔ المَضَّة مَضّ کا مؤنث۔ایک بار۔امراةٌ مَضَّةٌ: وہ عورت جو کسی تکلیف دہ شے کو برداشت نہ کر سکے۔ ألبانٌ مَضَّةٌ: ترش دودھ۔المَضَض (مص): مصیبت کا درد، دکھ، ترش یا کھٹا دودھ۔المَضَاض:

جلن، سوزش۔ المُضَاض نہ پیا جاسکنے والا کھاری پانی، آنکھ کی سوزش و جلن۔ المَضَّاض جلانے والا۔

۲۔ مَضَّ ۔مَضًّا الشیءَ: کو چوسنا۔

۳۔ مِضٍّ و مِضَّ و مِضِّ (مبنی حالت میں اور مِضٍّ تنوین کی حالت میں: لا کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رضامندی کی امید دلاتا ہے: اِنَّ فی مِضٍّ لسطمعًا 'نہیں' میں بھی امید کا پہلو ہے۔ اَلْمِضُّ ہونٹوں سے نہیں جیسا لفظ کہنا اور کچھ امید بھی دلانا۔ المصاص خالص، مخلص کہا جاتا ہے: فلانٌ من مُضَاض القوم فلاں شخص قوم کا مخلص ہے۔

۴۔ مَضْمَضَ مَضْمَضَةً و مَضْمَاضًا و مِضْمَاضًا الماءَ فی فیه: کلی کرنا۔ ۔الثوبَ وغیرہٗ کپڑا وغیرہ دھونا...... النعاسُ فی عینیه اونگھ کا آنکھوں میں سرایت کرنا۔ تَمَضْمَضَ النعاسُ فی عینیه: اونگھ کا آنکھوں میں سرایت کرنا۔ ۔الکلبُ فی اثرہ: کتے کا کسی کے پیچھے بھونکنا۔ المِضْمَاض جلن، پھرتیلا آدمی، نیند۔ المَضْمَضَة (مص) سانپ وغیرہ کی آواز، نیز سانپ کے زبان کو ہلانے کو مضمضة کہا جاتا ہے۔

◌ مَضَّ ۔مَضَضًا و مَضِیضًا ہٗ: کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، کو جلانا، ڈنک مارنا، ڈسنا، کاٹنا ۔۔۔ہ ب کو سے تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا، ایذا دینا، دق کرنا۔ ۔۔۔ مَضَضًا و مَضِیضًا و مَضَاضَةً تکلیف میں ہونا، درد محسوس کرنا، مصیبت اٹھانا، پریشان ہونا، فکروں میں گھلنا، مصیبت میں ہونا۔ اَمَضَّ ہٗ کو تکلیف پہنچانا، کو نقصان پہنچانا، کو دکھ دینا، تڑپانا۔ مَضَض درد، دکھ، تکلیف، عذاب، اذیت، روحانی اذیت، انتہائی جسمانی یا ذہنی تکلیف، ذہنی کرب، تکلیف دہ، تکلیف رساں، پُردرد، جلتا ہوا، چبھتا ہوا، درد کرنے والا۔ مَضَض تکلیف معیبت، جسمانی یا روحانی اذیت سے درد و کرب، شدید جسمانی یا روحانی اذیت (ذہنی) کوفت، سوہان روح، رنج والم، دکھ، درد، کھٹا دودھ۔ علی مضض ناراضمندی سے، بیدلی سے، بادل ناخواستہ، ہچکچاہٹ سے۔ مُضَاض کھاری پانی، نمکین پانی۔ مَضَاضة روحانی اذیت، شدید جسمانی و روحانی اذیت۔ مُمِضّ ذہنی کوفت کا موجب، موجب اذیت۔

مضح: مَضَحَ ۔مَضْحًا و اَمْضَحَ عِرْضَہٗ پر عیب لگانا۔ ۔۔۔عنه سے آہستہ آہستہ دور چلا جانا ۔۔۔ت الشمسُ سورج کی شعاعوں کا زمین پر پھیلنا ۔۔۔ت الابلُ اونٹوں کا بکھرنا ۔۔۔ت المزادۃُ توشہ دان کا رِسنا۔ اَمْضَحَ عِرْضَہٗ پر عیب لگانا۔

مضد: مَضِدَ ۔مَضَدًا: کینہ رکھنا۔

مضر: مَضَرَ ۔ُ و مَضَرَ ۔ِ و مَضِرَ ۔مَضْرًا و مَضَرًا و مُضُورًا النبیذُ او اللبنُ نبیذ یا دودھ کا ترش ہونا۔ مَضَّرَہٗ: کو قبیلہ مضر سے منسوب کرنا، کی نسبت قبیلہ مضر کیطرف کرنا ۔۔۔مُضَرَ: کو ہلاک کرنا۔ تَمَضَّرَ قبیلہ مضر کی طرف منسوب ہونا یا اس کے ہم رنگ ہونا اور ان کی طرف داری کرنا۔ لبنٌ مَاضِرٌ کھٹا دودھ۔ کہا جاتا ہے: ذهبَ دمُهُ خِضرًا مِضرًا: اس کا خون رائیگاں گیا۔ لبنٌ مَضِرٌ: کھٹا دودھ۔ کہا جاتا ہے: ذهب دمُه خِضرًا مِضرًا اس کا خون رائیگاں گیا۔ المُضارة من اللبن ترش دودھ کا پانی۔ لبنٌ مَضِیر: کھٹا دودھ۔ المَضِیرَة (ط) ترش دودھ میں پکا ہوا کھانا۔

۲۔ مَضَرَ اللّٰهُ له الثناءَ اللہ تعالیٰ نے اسکی اچھی تعریف بنائی۔ تَمَضَّرت الماشیةُ مویشی کا فربہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: اخذهُ خِضرًا مِضرًا اس نے وہ چیز نرم و تازہ لی یا بلا قیمت لی۔ عیشٌ مَضِرٌ آسودہ زندگی۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَهُ خَضِرًا مَضِرًا بمعنی أخذهٗ خِضرًا مِضرًا۔

◌ مَضِر و ماضِر: کھٹا دودھ۔ لغةُ مُضَر مضر کی زبان، عربی زبان۔

مضغ: مَضَغَ ۔مَضْغًا الطعامَ: کھانا چبا کر کھانا۔ مَضَّغَ ہُ الشیءَ: کو کوئی چیز چبوانا۔ مَاضَغَ القتالَ او الخصومةَ: سے دیر تک لڑنا یا جھگڑنا۔ اَمْضَغَ ہُ الشیءَ: کو کوئی چیز چبوانا۔ التمرُ کھجور کا چبانے کے قابل ہونا ۔۔۔اللحمُ: گوشت کا لذیذ ہونا اور کھایا جانا۔ المَاضِغ جمع مُضَّغ فا الماضِغان والماضغتان دونوں تالو۔ المُضْغَة جمع مُضَغ گوشت وغیرہ کا ٹکڑا جو چبایا جائے۔ مُضَغُ الامور و الجراحات چھوٹے اور معمولی کام یا زخم۔ المَضَاغ چبانا، چبائی جانے والی چیز۔ کہا جاتا ہے: ماعندنا مَضَاغ ہمارے پاس کوئی چبائی جانے والی چیز نہیں ہے۔ المُضَاغة چبائی جانے والی، چبائی ہوئی چیز کا منہ میں بقیہ۔ المَضَّاغ احمق، بہت چبانے والا۔ المَضِیغ جمع مَضِیغ و مَضَائغ ہڈی پر کا گوشت، جبڑا، عضلہ۔ المَوَاضِغ باچھیں۔

◌ مَضَغَ الکلامَ حروف کی آوازوں کو اس طرح ملانا کہ سمجھ میں نہ آئیں، گڈمڈ بولنا، غیر واضح بات کرنا۔ مُضْغَة جمع مُضَغ چبائی جانے والی چیز، کٹا ہوا ٹکڑا، لقمہ، نوالہ، ایک بار منہ میں رکھنے کا کھانا، گوشت کا چھوٹا ٹکڑا، جنین، کچا بچہ، ادھورا یا ناقص بچہ، چبانے والی گوند۔ مُضْغَة طَیِّبَة چٹپٹی خبر، تر نوالہ، مزیدار چیز۔ جَعَلَهُ مُضْغَةً فی الأفواه کو ہر ایک کی زبان پر لے آنا، کا گھر گھر چرچا کرنا۔ مَضَاغَة: چبائی جانے والی چیز۔

مضی: مَضَی یمضِی و مَضَا یَمْضُو مُضُوًّا و مُضِیًّا الشیءُ: گذر جانا، جانا، چلا جانا۔ مُضُوًّا سَبِیلَهٗ و لسبیله: مرجانا۔ ۔مَضَاءً و مُضُوًّا علی الامر: کو جاری رکھنا، کو پورا کرنا، پورے کئے ہوئے کام کو امر مَمْضُوّ علیه کہتے ہیں۔ ۔۔علی البیع: سودا کرنا۔ مَضِیَ ۔مَضَاءً السیفُ: تلوار کا قاطع ہونا، کاٹنا۔ مَضَّی تَمْضِیَةً الامرَ کو نافذ کرنا۔ اَمْضَی امضاءً الامرَ: کو نافذ کرنا۔ کہا جاتا ہے: امضی الحاکم حکمَهُ: حاکم نے اپنا حکم نافذ کیا۔ ۔۔البیعَ فروخت طے کرنا۔ امضاءُ الصکوك و الرسائل دستاویزات اور چٹھیوں کی دستخطوں کے لئے تکمیل۔ کہا جاتا ہے: اَمضیتُ له: میں نے اس کو تھوڑی غلطی پر چھوڑ دیا تا کہ وہ اس کے عروج پر پہنچ کر سزا پائے۔ تَمَضَّی الامرُ نافذ ہونا، جائز ہونا، قانونی ہونا۔ ۔۔الرجُلُ آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے: مَضَی علی مُضُوَائه: اپنی پیش قدمی کو کامیابی سے پورا کیا۔ المُضَوَاء آگے بڑھنا۔ الماضی (فا) جمع مَوَاضٍ: گزشتہ زمانہ، تلوار۔ فعل ماضی۔ المَضَاء: باعزم۔ کہا جاتا ہے: انت مضاء علی ما عزمتَ علیه: تم اپنے ارادہ کو پورا کرنے والے ہو۔ الإمْضاء: دستخط۔

◌ مضی ۔مُضِیًّا جانا، روانہ ہونا، بھاگ جانا، فرار ہو جانا، روپوش ہو جانا۔ ۔۔۔ب کو لے کر چلے جانا، کو اٹھا لیجانا۔۔۔: (وقت کا) گزرنا، وقت ختم ہونا۔ ۔۔فی میں پیش قدمی کرنا، ترقی کرنا، بہتر ہونا ۔۔فی اب کو کرتے رہنا، کو جاری رکھنا، ۔۔۔فی کو کرتے رہنا، میں لگے رہنا، کو حاصل کرنا، کے لئے جدوجہد کرنا، کے حصول کے پیچھے لگے رہنا، کی مشق کرنا، کی مزاولت کرنا، کوئی کام کرنا، میں اندر تک گھس جانا، داخل ہونا، چلے جانا۔ علی: کو ختم کرنا، انجام دینا، مکمل کرنا، حکم بجالانا، حکم کی تعمیل کرنا۔ ۔یفعل کو کرنے لگنا، کو کرتے رہنا۔ مَضَاءً (تلوار وغیرہ کا) تیز ہونا، قاطع ہونا۔ مضی سبیلهٗ مر جانا۔ مضی لسبیله مر جانا۔ مضی علی البیع: کوئی سودا کرنا۔ مضی علی ذلك شهورٌ اس وقت سے کئی مہینے گزر گئے۔ مضی فی کلامه بولتے رہنا۔ مَضَی مامَضَی گزشتہ را صلوات (let bygones be bygones)۔

فِيما مَضَى يا فيما مضى من الزمان. پہلے، پہلے زمانہ میں، ایک دفعہ، ماضی میں لم يَمْضِ غيرُ قليلٍ حتّى جلد ہی من سنة مَضَتْ. ایک سال پہلے ومَضَى فقال. اور وہ کہتا رہا، اس نے مزید کہا مَضًى. گزارنا في وقت صرف کرنا، گزارنا (کے ساتھ) أَمْضَى ه وقت صرف کرنا، گزارنا ه کو بجالانا، کو عمل میں لانا، سرانجام دینا، مکمل کرنا، ختم کرنا، طے کرنا ـ ه. امتحان پاس کرنا ـ ه: پر دستخط کرنا أُمْضَى أَمْرَهُ على کے پیچھے اپنی مکمل تائید رکھنا، کی مکمل تصدیق کرنا مُضِيُّ المدّة: وقت کا گزر جانا، پیرانہ سالی التملّك بمُضِيّ المُدّة: حق بذریعہ قبضہ، حق قدامت على مضيّ الزمان: دائی طور پر، مستقل طور پر المضى في الحرب جنگ کا جاری رہنا، جنگ کا تسلسل مضاء: تیزی، دھار، کاٹ، شدت، سختی، سرگرمی، ذہانت، نفوذ، رسائی، داخل ہونا، تیز فہمی، فراست، زیرکی، تیز ذکاوت، فہم وفراست، طاقت، قوت، زور مضاءُ العزيمة: مقصد کی قوت، عزم، ارادہ، عزم مصمم، جوش ولولہ أَمْضَى: زیادہ تیز، زیادہ کاٹنے والا، زیادہ موثر تمضية الوقت: تفریح، کھیل۔ صاحبُ الإمضاء: دستخط نگار، زیر دستخطی ماضٍ: تیز، تیز دھار والا، نوک دار، قاطع، زکی تیز فہم، چیر کر نکل جانے والا، موثر، توانا، طاقتور، سرگرم، ماضی، گزرا ہوا الماضي: زمانہ ماضی، مکمل، فعل ماضی مطلق۔ ماضي العزيمة: باعزم، ثابت قدم، مصمم الشهر الماضي: گزشتہ ماہ مُمْضٍ: دستخط کنندہ، معاہدہ پر دستخط کرنے والا، فریق معاہدہ مُمْضًى: زیر دستخطی، دستخط نگار۔

مطّ. ا۔مَطَّ ـمَطًّا الشيء: کو پھیلانا......الدلوَ: ڈول کھینچنا......خَدَّهُ: تکبر کرنا۔ کہا جاتا ہے مَطَّ شَدَقَهُ: گفتگو طویل کرنا......الطائرُ جناحيه: پرندہ کا اپنے پر پھیلانا ــــ خطّه او خطوَهُ: خط کو لمبا کرنا، ڈگ بھرنا مَطَّطَ الرجلَ: کو گالی دینا ــــ الشيءَ: کو زور سے کھینچنا یا بہت پھیلانا۔ تَمَطَّطَ: کھنچنا، پھیلنا، چٹنا۔ کہا جاتا ہے: هذا دبسٌ يتمطط لخثورته: یہ پکایا ہوا شیرہ، گاڑھا ہونے کی وجہ سے پھیلتا یا کھنچتا ہے، ــ في الكلام: لمبا کرکے اور سجا کر کلام کرنا۔ المَطَاط: اونٹنی کا گاڑھا اور کھٹا دودھ۔ المَطَّاط: ربڑ (rubber) جو کاؤتشوک (caoutchouc) کے نام سے بھی معروف ہے۔ المُطَيطَى و المُطَيطاء و المَطِيطاء: مغرورانہ چال، چلنے میں دونوں ہاتھوں کو پھیلانا المَطِيطة جمع مَطائِط: گدلا گاڑھا پانی۔

۲۔مَطْمَطَ: بولنے یا لکھنے میں سستی کرنا تَمَطْمَطَ الماءُ: پانی کا گاڑھا ہونا۔

○ مَطَّ ـمَطًّا ه: کو کھینچ کر پھیلانا، کھینچنا، تاننا، کھینچ کر کسنا، نکالنا، کو کسنا، کس کر لگانا یا باندھنا مَطَّطَ ه: کو پھیلانا، کھینچنا، تاننا۔ ......ه: کو گالی دینا، جھاڑ جھپاڑ کرنا تَمَطَّطَ: پھیلنا، کھنچنا، وسیع، چوڑا ہونا، پھول جانا، لمبا ہونا، قابل توسیع ہونا، لمبا کرنے کے قابل ہونا، وسعت پذیر ہونا، بڑھانے یا پھیلانے کے قابل ہونا، سکڑنے پھیلنے والا ہونا، لچکدار ہونا، ربڑ جیسا ہونا مَطَّاط: پھیلانے کے قابل، وسعت پذیر، بڑھانے یا پھیلانے کے قابل، لچکدار، سکڑنے پھیلنے والا، ربڑ جیسا، دیر لگانے والا، ربڑ دار، ربڑ، کاؤتشک تَمَطُّط: کشادگی یا وسعت کی قابلیت، وسعت پذیری، پھیلانے یا بڑھانے کی قابلیت، لچک اصلی حالت پر آجانے والی خصوصیت۔

مطح: مَطَحَ ـمَطْحًا ه بيده: کو ہاتھ سے پیٹنا۔ تمعطَّحَ و إِمْتَطَحَ الوادي: وادی کا پانی زیادہ اور بلند ہونا۔

مطخ: مَطَخَ ـمَطْخًا العسلَ: شہد چاٹنا ــ الرجلَ بيده: کو ہاتھ سے پیٹنا ـ عِرضَهُ: کی عزت خراب کرنا الماطِخ (فا): ست رفتار گھوڑا المَطّاخ: احمق، متکبر، بدزبان، جھوٹا، جھوٹے کو کہتے ہیں جَمَطْخ مَطْخ یا مطخ مِطخ یعنی تیری بات جھوٹ ہے۔

مطر: ا۔مَطَر ـمَطْرًا و مَطَرًا تِ السماءُ: آسمان کا بارش برسانا......ت السماءُ القومَ: آسمان کا قوم پر بارش برسانا ــــ مُطُورًا و مَطْرًا القِربَةَ: مشکیزہ بھرنا ــ الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا ــ ت الطيرُ: پرندہ کا تیزی سے اترنا أَمْطَرَتِ السماءُ: آسمان کا بارش برسانا ــ السماءُ القومَ: آسمان کا قوم پر بارش برسانا ــ الرجُلُ: کی پیشانی پر پسینہ آنا۔ (کہا جاتا ہے: كلّمتُ فلانا فأمْطَر و استَمْطَر: میں نے فلاں سے بات کی تو اس نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا اور اس کی پیشانی پسینہ رعرق آلود ہو گئی) بارش میں ہونا ــ المكانَ: جگہ کو بارش برسا ہوا پانا۔ تَمَطَّرَ: بارش کے سامنے ہونا، بارش میں قابو آجانا، بارش مانگنا ــ الطيرُ: پرندہ کا تیزی سے اترنا ــ به فرسُهُ: گھوڑے کا سواری لے کر تیز دوڑ جانا ــ ت الخيلُ: گھوڑوں کا ایک دوسرے پر سبقت لیجاتے ہوئے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے آنا اِستَمْطَرَ اللهَ: اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنا ــ المكانُ او الزرعُ: جگہ یا کھیتی کا بارش کا محتاج و ضرورت مند ہونا ــ الرجُلَ: بارش سے چھپنا ــ ثوبَهُ: برساتی پہننا ــ فُلانًا و من فلان: سے بخشش کی التجاء کرنا ــ للسياط: کوڑے کھانا۔ کہا جاتا ہے لا تستمطر الخيلَ: گھوڑوں کے سامنے نہ ہو الماطِر: بارش والا المَطِر: بارش والا يوم مَطِر: بارش والا دن المَطَر جمع أَمْطار: بارش المُطْرَة: بوچھاڑ المَطْرَة: مشک ـ حوض کا وسط امرأةٌ مَطِرَة: غسل وصفائی ستھرائی کا التزام کرنے والی عورت المَطّار و المَطّارة من الآبار: چوڑے منہ والا کنواں المَطّارُ من الخيل: تیز دوڑنے والا گھوڑا المَطِير: بارش والا، جس پر بارش ہوئی ہو سحابٌ مِمْطارٌ: بہت برسنے والا بادل المِمْطَر و المِمطرَة: برساتی، عوام اسے مشمّع کہتے ہیں المُتَماطِر: ٹھہر ٹھہر کر برسنے والا بادل المُتَمَطِّر: بارش کے بعد ہوا خوری کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: خَرَجَ مُتَمَطِّرًا: وہ بارش کے بعد ہوا خوری کرتا ہوا نکلا، تیز دوڑنے والا گھوڑا، تیز دوڑنے والے گھوڑے کا سوار المُسْتَمْطِر (فا): بارش کا حاجتمند المُسْتَمْطَر (مفع): بارش کے لئے کھلا میدان۔

۲۔مَطَرَ ـمُطُورًا في الارض: زمین میں جانا۔ کہا جاتا ہے ذهب ولا ادرى مَنْ مَطَرَ به: وہ چلا گیا مجھے معلوم نہیں اسے کون لے گیا ــ العبدُ: غلام کا بھاگ جانا۔ تَمَطَّرَ الرجلُ في الارض: زمین میں جانا۔

۳۔مَطَرَ ـمُطُورًا الشيءُ: بلند ہونا۔

۴۔اِسْتَمْطَرَ الرجُلُ: چپ ہونا۔

۵۔المُطْر: باجرہ کی بالی، عادت المُطْرَة و المِطْرَة و المَطْرَة: عادت۔

۶۔المَطْران والمِطران جمع مَطارِنَة و مَطارِين: لاٹ پادری، اسقف اعظم۔

○ مَطَرَ ـمطرا: بارش ہونا مطرت السماءُ: بارش ہوئی ــ ه: آسمان کا کسی پر بارش کی بوچھاڑ کرنا ــ ه ب: پر کی بوچھاڑ کرنا، پر کا زوروں سے ہونا یا پڑنا، پر کچھ انڈیلنا، دھار باندھ کر ڈالنا، پر کچھ برسانا، پر کا تانتا بندھ جانا ــ ه بخير: کے ساتھ اچھائی کرنا، پر مہربانی کرنا، احسان کرنا ــــ (گھوڑے کا) تیز دوڑنا، تیز جانا۔ أَمْطَرَ (ت السماءُ): بارش ہونا ــ ه على: سے پر بارش کروانا ــ ه ب: پر کی بوچھاڑ کرنا ــ على ه: پر کی بوچھاڑ کرنا ــ ه ب / على ه: پر کا انبار

لگانا۔ أُمْطِرَ علیہ وابلاً من یا أَمْطَرَہ بوابلٍ من: اس نے اس پر (پتھروں) کی بوچھاڑ کی، اس نے اس پر (گھونسوں/مکوں) کی بارش کی، اس نے اس پر (گالیوں/دھمکیوں) کی بوچھاڑ کی۔ اِسْتَمْطَرَ: بارش مانگنا۔ ـــــ ہ/من سے احسان کرنے کی درخواست کی۔ ـــــ ہ: کی آرزو کرنا، کی تمنا کرنا، کی تمنا ظاہر کرنا، کی خواہش کرنا۔ ... علی ہ: پر کی دعا مانگنا۔ مَطَر جمع أَمْطَار: بارش۔ محطة لرصد الامطار: بارش پیمائی کا مرکز۔
(Pluviometerical station)
مَطَرة مَطْرَة جمع مطرات: بڑے زور کی بارش موسلا دار بارش، بارش کی بوچھاڑ۔ مَطِر و مَطِير: برسات کا، بہت بارش والا۔ مُمْطِر و مِمْطَرَة جمع مَمَاطِر: برساتی (rain coat)۔ مَاطِر: بمعنی مَطِر و مَطِير۔ مُمْطِر: بمعنی مَاطِر مواسم۔ مُمْطِرَة: بارش کے موسم یا عرصے۔ مَطْرَنَ ہ کو اسقف اعظم کے عہدے پر ترقی دینا، کو اسقف اعظم کی خدمات بجالانے کے لئے وقف کرنا۔ تَمَطْرَنَ: اسقف اعظم کی حیثیت سے تعینات ہونا۔ مَطْرَنة: اسقف اعظم کا عہدہ۔ مطرنية و مَطْرانية جمع مطرنيات و مطرانيات: اسقف اعظم کا حلقہ یا علاقہ۔

مطع: مَطَعَ ـ مَطْعًا و مُطوعًا فی الارض: زمین میں جا کر گم ہو جانا۔ ـــ الشیءَ: کو اگلے دانتوں سے کھانا۔ المَاطِع (فا): خالص۔ کہا جاتا ہے: بیاض ماطع ناطع: خالص سفیدی۔

مطق: تَمَطَّقَ الطعامَ: کھانا چکھنا۔ ـ الرجلُ: چٹخارہ لینا۔ ـ ت القوسُ: کمان کا چھٹنا۔ المَطْقَة: مٹھاس، حلاوت۔ کہا جاتا ہے: تَمْرُهُمْ لَهُ مَطْقَةٌ: ان کی کھجوروں میں مٹھاس ہے۔

مطل: ۱۔ مَطَلَ ـ مَطْلاً ہ حقَّہ و بحقِّہِ: کو اس کا حق دینے میں بار بار ٹال مٹول کرنا۔ ـ الحبلَ: رسی تاننا۔ ـ الحدیدَ: لوہے کو لمبا کرنے کے لئے کوٹنا، لوہے کو پگھلا کر چوڑا کرنا۔ مَاطَلَ مِطَالاً و مُمَاطَلَةً ہ بحقہ: کو کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا۔ ـــ الدَّیْنَ: قرض کی ادائیگی کو ملتوی کرنا۔ اِمْتَطَلَ ہ حَقَّہُ: کو ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا۔ ـ النباتُ: پودے کا بڑھ کر لمبا ہونا اور گنجان ہونا۔ ـ اِمْطَلَّ الشیءُ: چیز کا دراز ہونا۔ المُطْلَة و المَطْلَة: حوض یا جوہڑ کی تہہ میں تہیہ پانی۔ المِطَالَة: قلعی گر کا پیشہ۔ المُطَّال: لوہے کو پگھلانے والا۔ المَطَّال و المَطول: بہت ٹال مٹول کرنے والا۔ المَطِيلة: تپا کر کوٹا اور چوڑا کیا ہوا لوہا۔ المِمْطَل: لوہار کا آہرن۔
۲۔ المُطْلَة: مشک سے گرنیوالا تھوڑا سا پانی۔ المطل: چور۔
○ مَطَلَ ـ مَطْلاً ہ: کو لمبا کرنا، پھیلانا، چوڑا کرنا۔ ہ: رسی تاننا ـــ ہ: (لوہے) کو ہتھوڑے سے کوٹنا، تپانا، کوٹ کر کوئی شکل دینا ـ ہ ب: کو عذر پیش کر کے ٹال جانا...... ہ کو ملتوی کرنا۔ مَاطَلَ: دیر کرنا، دفع الوقتی کرنا، وقت لینا...... ہ ب: کو کوئی عذر کر کے ٹال جانا۔ مَطُول: ملتوی کرنے والا، تاخیر کرنے والا، ٹالنے والا، معرض تعویق میں ڈالنے والا، دیر سے (کام) کرنے والا، سست، دیر کرنے والا۔ مَطِيلة جمع مَطَائِل: کوٹا ہوا لوہا۔ مُمَاطلة: التواء، لیت ولعل، ٹال مٹول، تعویق، تاخیر۔

مطو: مَطَا يَمْطُو مَطْوًا: چلنے میں جلدی کرنا۔ بالقوم: کو دیر تک چلانا۔ مَطِيَ يَمْطَى مَطًى: پھیلنا، لمبا ہونا۔ أَمْطَى الدابةَ: جانور پر سوار ہونا، جانور کو سواری بنانا۔ ـــ ہُ الدابةَ: کو جانور پر سوار کرنا۔ تَمَطَّى: پھیلنا، لمبا ہونا، طویل سیر کرنا۔ ـــ الرجلُ: چلنے میں تکبر سے بازو پھیلانا۔ اِمْتَطَى الدابةَ: جانور پر سوار ہونا۔ المَطَا (مص تثنیہ مَطَوَان جمع أَمْطَاء: پیٹھ۔ المَطْو جمع مِطَاء و أَمْطَاء و مَطِيّ: وہ شاخ جس کو چیر کر گٹھا باندھا جائے۔ المِطْو جمع مِطَاء و أَمْطَاء و مَطِيّ: وہ شاخ جس کو چیر کر گٹھا باندھا جائے۔ ..... جمع مِطَاء: کھجوروں سے لدا ہوا کھجور کا درخت، باجرہ کا خوشہ، ساتھی، نظیر۔ المَطْوَة: مَطَا کا اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے: مضت مَطْوَةٌ من اللیل رات کی ایک گھڑی گزر گئی۔ المَطِيَّة جمع مَطَايا و مَطِيّ: جانور جس پر سواری کی جائے، اس میں مذکر و مؤنث برابر ہیں۔ چنانچہ بعیر (اونٹ) اور ناقة (اونٹنی) مَطِية (سواری کا جانور) ہیں۔ المُطَوَاء (غُلَوَاء کی طرح): انگڑائی وسعت لمبائی۔ الأَمْطَى: سیدھے قد والا، ایک قسم کا گوند جو کھایا جاتا ہے۔
○ مَطَا ـ مَطْوًا: جلدی جلدی قدم اٹھانا، جلدی کرنا، تیز چلنا۔ اِمْطَى ہ: (جانور) پر سوار ہونا، چڑھنا۔ تَمَطَّى: پاؤں پسار کر لیٹنا، دراز ہونا، اینٹھنا، سستی سے پڑے رہنا، بیٹھنا یا کھڑے ہونا۔ ـــ ب: کو پھیلانا جیسے اپنا جسم یا بازو۔ ـــ تکبر سے چلنا، اترا کے چلنا، اکڑ کر چلنا، یا اینٹھ کر چلنا۔ اِمْتَطَى ہ: (جانور) پر چڑھنا، (گاڑی) پر چڑھنا، میں داخل ہونا، پر سوار ہونا، جانور یا گاڑی پر سوار ہونا۔ مَطْوَة: گھڑی، وقت، لحہ۔ مَطِيَّة جمع مَطَايَا و مَطِيّ: سواری کا جانور، مصلحت، چارۂ کار، حصول مقصد کا ایک ذریعہ، آلہء کار۔

مظ: ۱۔ مَظَّ ـ مَظًّا ہُ: کو ملامت کرنا۔ مَاظَّ مِظَاظًا و مُمَاظَّةً ہُ: سے جھگڑنا، کو گالی دینا۔ الخَصْمَ: دشمن کا نزدیک رہ کر تعاقب کرنا۔ اَمَظَّ ہُ: کو گالی دینا۔ تَمَاظَّ القومُ: آپس میں جھگڑا کرنا، باہم گالی گلوچ ہونا۔ المَظَاظَة: سختی، بدمزاجی۔
۲۔ المَظّ (ن): جنگلی انار، ایک قسم کی گوند کا سرخ عرق، رس، شیرہ یا نچوڑ۔

مظع: مَظَعَ ـ مَظْعًا و مَظَّعَ الوتَرَ: تانت کو خشک اور ہموار کرنا۔ تَمَظَّعَ الماكولَ: کھانے کے قابل چیز کو چٹ کر جانا۔ ـ الظِلَّ: سایہ ادھر ادھر تلاش کرنا۔ ـ فی الرعی: چرانے کی وقت سے پیچھے رہ جانا۔ المُظْعَة: گھاس کا بقیہ۔

مع: ۱۔ مَعَ و مَعْ: ساتھ، وقت پر، کے باوجود جیسے: اللّٰہ مَعَكم: اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اِفْعَلْ هذا مع هذا: اس کے ساتھ یہ کر۔ جئتك مَعَ العصر: میں عصر کے وقت تمہارے پاس آیا۔ جئتُ مِن مع القوم: میں ان کے پاس سے آیا۔ مندرجہ بالا صورتوں میں "مع" مضاف استعمال ہوا ہے۔ غیر مضاف ہونے کی صورت میں حال کے طور پر مُنَوَّن (تنوین نصبی) آتا ہے اور جماعت اور تثنیہ کے لئے ایک لفظ سے آتا ہے۔ جیسے: جَاءَ زیدٌ و عمرٌو معًا: زید اور عمرو ایک ساتھ آئے، اکٹھے آئے۔ جِئنا معًا: ہم اکٹھے آئے۔ نسبت کی صورت میں مَعِيّ آتا ہے۔ اس سے واؤ معیت بھی آتی ہے جیسے: سرتُ والجبلَ: میں پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلا۔
○ مع ذلك: اس کے باوجود۔ مع كونه غنيا: اس کے مالدار ہونے کے باوجود۔
۲۔ مَعْ: بکری وغیرہ کی آواز کی نقل، عام لوگ اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں۔ مَعَّى الخروفُ يمعّي: بھیڑ کے بچے نے میں میں کی۔
○ مَعًا: اکٹھے، ساتھ ساتھ، مل کر، ایک مقام پر، ایک ہی جگہ، اسی وقت، ایک ہی وقت، ایک دوسرے کے ساتھ۔ مَعَ أن: اگرچہ، ہر چند، باوجودیکہ۔ و مَعَ أنّ ـــ إلّا أنّ: اگرچہ، تاہم، لیکن۔ مع ذلك یا مع هذا: اس کے باوجود، اس کے بعد بھی، بایں ہمہ، اس پر بھی، پھر بھی۔ مع كلّ هذا: اس سب کے باوجود، بااین ہمہ۔ لیس مع الحکومة: وہ حکومت کے حق میں نہیں، وہ حکومت کا طرفدار نہیں۔ مع الحائط

دیوار کے ساتھ ساتھ۔ کان معہ: یہ اس کے پاس تھا۔ مَامَعَکم؟: تمہارے پاس کیا ہے؟، تم کیا لائے ہو؟، تمہارے ذہن میں کیا (تدبیر یا منصوبہ) ہے؟۔ اَلَسْتَ معی فی ان: کیا تمہارا بھی یہ خیال نہیں کہ۔ کیا تم میری اس رائے میں شریک نہیں کہ۔ اِستعملَ وسائل القَسْوَۃِ مع: اس نے اس کے خلاف سخت اقدامات استعمال کئے۔ مَعِیَّۃ: ساتھ، معیت، رفاقت، صحبت، حفاظت، خدم وحشم، نوکر چاکر، حاشیہ نشیں، مصاحب۔ بمعیۃ فلان یا فی معیۃِ فلان: کی معیت یا رفاقت میں۔ بمعیۃِ ھذا: یہ اس میں ملفوف ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے۔

مَعَّ: ۱۔ مَعَّ ۔ مَعًّا الشحمُ: چربی کا پگھلنا۔

۲۔ مَعْمَعَ: جلدی میں کوئی کام کرنا۔۔۔ القومُ: سخت قتال کرنا، سخت گرمی میں چلنا۔۔۔ الشیءُ المحترِقُ: جلتی چیز کا آواز دینا۔۔۔ ت السماءُ المطرَ علی الارض: آسمان کا یکلخت برس کر زمین کو چھیل ڈالنا۔ المَعْمَعَۃ (مص) جمع مَعَامِع: نرکل کے جلنے کی آواز، جنگ میں لڑنے والوں کا شور، گرمی کی شدت۔ المَعَامِع: جنگیں، فتنے۔ المَعْمَعَانُ: سخت گرمی یا سردی۔ کہا جاتا ہے: جاءنی فی معمعان الصیف. وہ میرے پاس موسم گرما کی سخت گرمی کے وقت آیا۔ فی مَعْمَعَانِ الشتاء: سخت سردی میں۔۔۔ والمَعْمَعانی من الایام: سخت گرم دن۔

۳۔ مَعْمَعَ الرجُلُ: بات چیت میں لفظ "مع" زیادہ استعمال کرنا۔ المُعْمِعِی: جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، اور ہر ایک سے کہتا ہو انا معك (میں تیرے ساتھ ہوں) یعنی میری بھی وہی رائے ہے جو تمہاری رائے ہے۔

۴۔ المَعْمَع: ذہین اور تیز خاطر عورت۔ کہا جاتا ہے ھو ذُو مَعْمَعٍ: وہ امور کو برداشت کرنے والا، ان پر کامل توجہ کرنے والا ہے۔

⭘ مَعْمَعَۃ جمع مَعَامِع: الجھن، گڑبڑ، گھبراہٹ، گڈمڈ، بے ترتیبی، ابتری، ہنگامہ، کہرام، شور و غوغا، ہلچل، افراتفری۔ مَعَامِع: جنگیں، لڑائیاں، معرکے۔ مَعْمَعَان: طوفان کا زور اور گرج، (جنگ کا) ہنگامہ، (گھمسان کا) رن، (گرمی اور سردی) کی شدت اور انتہاء۔ مَعْمَعَانُ الصیف: سخت گرم موسم۔ معمعان الشتاء: سخت سردی کا موسم۔ مَعْمِعِی: جی حضوریا (yesman)۔

معت: مَعَتَ ۔ مَعْتًا الشیءَ: کو ملنا۔

معج: مَعَجَ ۔ مَعْجًا الفرسُ: گھوڑے کا نرمی اور تیزی سے چلنا۔ صفت مَعُوج۔۔۔ البحرُ: سمندر کا موج زن ہونا، جوش مارنا۔۔۔ السیلُ: سیلاب کا تیز بہنا۔۔۔ بالقلم فی الدواۃ: قلم کو دوات میں ہلانا تا کہ اس پر روشنی اچھی طرح لگ جائے۔۔۔ الفصیلُ ضرعَ اُمِّہ: اونٹنی کے بچے کا دودھ اتارنے کے لئے منہ مارنا۔ کہا جاتا ہے: الریحُ تَمْعَجُ فی النبات: ہوا پودوں کو دائیں بائیں الٹ پلٹ کر رہی ہے۔ تَمَعَّجَ السیلُ او الحیَّۃُ: سیلاب یا سانپ کا پیچ و تاب کھاتے ہوئے گزرنا۔ المَعْج (مص): اضطراب، قتال، ہوا کا نرم چلنا۔ المَعْجَۃ: اسم مرۃ۔ جوانی کا آغاز۔ کہا جاتا ہے فعل ذلك فی معجۃ شبابہ: اس نے یہ کام اپنی جوانی کے آغاز میں کیا تھا۔ المَعَّاج: اسم مبالغہ۔ حمارٌ معّاجٌ: دوڑنے میں ادھر ادھر ہونے والا گدھا۔ ریحٌ مَعُوجٌ: تیز چلنے والی ہوا۔ فرسٌ مِمْعَجٌ: نرمی اور تیزی سے چلنے والا گھوڑا۔

⭘ تَمَعَّج: (دریا کا) چکر کھاتے ہوئے بہنا۔ چکر کھانا، پیچ وخم کے ساتھ چلنا۔

معد: ۱۔ مَعَدَ ۔ مَعْدًا الشیءَ: کو چرانا، خورد برد کرنا، اچک لیجانا، تیزی سے کھینچنا۔۔۔ الرمحَ: نیزہ کو اس کی جگہ سے کھینچنا۔۔۔ فی الارض: زمین میں دور کا سفر کرنا۔۔۔ لحمَہُ: گوشت کو آگے کے دانتوں سے کھانا۔۔۔ السیفَ: تلوار سونتنا۔۔۔ مَعْدًا و مُعُودًا بالشیءِ: کو لیجانا۔۔۔ الدلوَ وبھا: ڈول کو کنویں سے کھینچ کر نکالنا۔ اِمْتَعَدَ الشیءَ: کو چرانا، خورد برد کرنا۔ المَعْد: تیز چلنے والا اونٹ۔ المَعْدَۃ: اسم مرہ۔ مَعْد کا مونث۔

۲۔ مَعَدَ ۔ مَعْدًا الرجُلَ: کے معدہ پر مارنا، کا پیٹ زخمی کرنا۔۔۔ الشیءُ: خراب ہونا۔ مُعِدَ: کے معدے کا تکلیف دینا۔ صفت مفعولی مَمْعُود: یعنی جسے معدہ تکلیف میں مبتلا کئے ہوئے ہو۔ المَعْد (مص): موٹا۔ المَعِدَۃ والمِعْدَۃ جمع مَعِد و مِعَد (ع ا): معدہ۔ المُعَاد (طب): معدے کی بیماری۔ المَعَدّ: پیٹ، انسان وغیرہ کا پہلو۔ یہ دو ہوتے ہیں۔ ھما المَعَدَّانِ۔

۳۔ المَعْد: نرم سبزی، تازہ پھل۔ کہا جاتا ہے ما لہُ ثَعْدٌ ولا مَعْدٌ: اس کے پاس نہ تھوڑا ہے نہ بہت۔ المُتَمَعِّدَۃ من الرطب: تازہ رس دار کھجوریں۔

۴۔ تَمَعْدَدَ الغلامُ: لڑکے کا جوان ہونا، موٹا تازہ ہونا اور بچپن کی تری جاتی رہنا۔۔۔ المریضُ: بیمار کا تندرست ہونا۔۔۔ المھزولُ: کمزور کا موٹا ہونے لگنا۔

⭘ مُعِدَ: ریاحی تکلیف میں مبتلا ہونا، ضعف معدہ یا اسہال کی تکلیف میں مبتلا ہونا، پیٹ درد کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔ مَعِدَۃ و مِعْدَۃ جمع مِعَد: پیٹ۔ مَعِدی: پیٹ کا، ریاحی۔ امراض معدیۃ: ریاحی بیماریاں۔ حُمَّی معدیۃ: ریاحی بخار۔ مَمْعُود: ریاحی بیماری میں مبتلا، ضعف معدہ کا مریض۔

معر: مَعِرَ ۔ مَعَرًا الریشُ او الشَعَرُ: بال یا پر کم ہونا۔۔۔ ت الناصیۃُ: پیشانی گنجی ہونا۔۔۔ الظُفُرُ: ناخن کا چوٹ وغیرہ سے گر جانا۔ مَعَرَ: غریب ہونا، بے توشہ ہونا۔۔۔ وجھَہُ: چہرے کو غصہ سے بدلنا۔ اَمْعَرَ الریشُ او الشَعَرُ: بال یا پر کم ہونا۔۔۔ الرجلُ: غریب ہونا۔۔۔ ت الارضُ: زمین کا کم نباتات والی ہونا۔۔۔ الرجُلَ: کا مال چھین کر اسے کنگال کر دینا۔ ...... القومُ: لوگوں کا قحط زدہ ہونا، بے سبزہ زمین میں آنا۔۔۔ ت المواشی الارضَ: مویشیوں کا سب گھاس چر جانا۔ تَمَعَّرَ رأسُہُ: کے سر کے بالوں کا گر جانا۔۔۔ وجھُہُ: کے چہرہ کا رنگ بدل جانا، پیلا پڑ جانا، تازگی جاتی رہنا۔ المَعِر: کم بالوں یا پروں والا، چوٹ وغیرہ سے گرا ہوا ناخن، بخیل اور بے خیر مرد، کم گوشت والا۔ ارضٌ مَعِرَۃ: ننگی زمین، بے برگ و گیاہ زمین۔ المَعَارَۃ: بدمزاجی، غضبنا کی کی وجہ سے چڑھائی ہوئی تیوری۔ الأمْعَر مونث مَعْرَاء جمع مُعْر: کم بالوں والا، کم نباتات والی جگہ، اترے ہوئے بالوں والا موزہ۔ ناصیۃٌ مَعْراء: گنجی پیشانی۔ المَمْعُور (مفع): غصہ سے تیوری چڑھانے والا۔

⭘ مَعِرَ ۔ مَعَرًا: بالوں کا گر جانا۔ اَمْعَرَ: غریب ہو جانا، کنگال ہو جانا۔ تَمَعَّرَ: بالوں کا گر جانا۔ مَعَار: ڈینگ مارنے والا، لاف زن، شیخی خورہ، اکڑنے والا، شیخی باز۔

معز: مَعَزَ ۔ مَعْزًا الراعی المعزی عن الضأن: چرواہے کا بکریوں کو بھیڑوں سے الگ کرنا۔ مَعِزَ ۔ مَعَزًا الشیءُ: سخت ہونا۔ صفت مَعِزٌ و ماعِزٌ۔۔۔ الرجُلُ: کام میں کوشش کرنا۔ وأمْعَزَ الرجُلُ: بہت بکریوں والا ہونا۔ تَمَعَّزَ وجھُہُ: چہرہ کا تیوری والا ہونا۔۔۔ البعیرُ: اونٹ کا تیز دوڑنا۔ اِسْتَمْعَزَ: کام میں کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے ما أمْعَزَہُ من رجُلٍ: وہ کتنا سخت اور بے لوچ ہے۔ ما امْعَزَ رأیَہُ: وہ کس قدر مضبوط رائے والا ہے۔ الماعِز (فا) مَعْز کا واحد جیسے صاحب و صَحب مذکر و مونث ہے۔ بکرا، بکری، کبھی بکری کو ماعِزَۃ بھی کہتے ہیں۔ جمع مَوَاعِز: بکری کی کھال، طاقت ور شخص۔۔۔ و المَعِز

والمُسْتَمْعِز: چست کوشش کرنے والا۔ المَعْز: بکری۔ اسم جنس ہے۔ واحد ماعِز اور جمع (ح): اَمْعُز و مَعِیز (ح): زمین کی تخی۔ ہے۔ المَعَز: بکری (اسم جنس)۔ المَعَاز و المِعْزی و المَعِیز: بکری (اسم جنس)۔ مَاعِز کی مادہ، بکری۔ المُعْزَاۃ: بخیل، سائل کو روکنے والا۔ المِعْزِی: المَعَّاز: بکریوں والا، بکریوں کا چرواہا۔ گذریا۔ الأَمْعَز و م: سخت پتھریلی جگہ۔ جمع مُعْز و مَعْزَاوات و اَمَاعِز۔ بکری۔ الأُمْعُور جمع اَمَاعِز و اَمَاعِیز: تیس چالیس کے درمیان ہرنوں کا غول۔ رَجُلٌ مُمَعَّزٌ: سخت کھال والا۔

مَعْز و مَعَز: اسم جنس واحد مَعْزَۃ جمع اَمْعُز و مَعِیز: بکریاں۔ بکری، بکرا۔ مَاعِز جمع مَوَاعِز: مَعَّاز: بکریاں چرانے والا، چرواہا، گذریا۔

معس: ۱۔ مَعَسَ ۔ مَعْسًا الشیءَ: کو زور سے ملنا۔ ۔ الرجُلَ: کی توہین کرنا، بے عزتی کرنا، کو نیزہ مارنا۔ عوام کہتے ہیں: مَعَسَہُ: اس نے اسے خوب کوٹا (سریانی لفظ)۔ حرکت۔ المِعْسَ: لڑائی میں آگے بڑھنے والا۔ المَعَّاس و المُتَمَعِّس:
۲۔ المَعْس: دودھ۔

معص: مَعِصَ ۔ مَعَصًا الرجُلُ: زیادہ چلنے سے پاؤں میں موچ آنا یا پٹھے میں درد ہونا۔ صفت: مَعِص و مَعِیص۔ تَمَعَّصَ بطنُہُ: کو پیٹ کا درد کرنا۔ الرجُلُ: شرمندہ ہونا۔

معض: مَعِضَ ۔ مَعَضًا و اِمْتَعَضَ عن الامر: ﷲ غضبناک ہونا، کو گراں گزرنا۔ صفت: مَعِض و ماعِض۔ مَعَّضَہُ: کو غضبناک کرنا، کو تکلیف دینا، کو درد میں مبتلا کرنا۔ اَمْعَضَہُ: کو غضبناک کرنا، کو دکھ دینا۔ ۔ الشیءَ: کو جلانا۔

معط: ۱۔ مَعَطَ ۔ مَعْطًا الشیءَ: کو کھینچنا، پھیلانا۔ ۔ بحقِ فلان: کے حق کو ٹال جانا۔ اِمْتَعَطَ و اِمَّعَطَ النہارُ: دن کا لمبا ہونا۔
۲۔ مَعَطَ ۔ مَعْطًا الریشَ: پر نوچنا۔ ...... السیفَ: تلوار سونتنا۔ مَعِطَ ۔ مَعَطًا الذئبُ: بھیڑیے کا گرے ہوئے بالوں والا ہونا۔ صفت: مَعِط و اَمْعَط۔ تَمَعَّطَ الذئبُ: بھیڑیے کا گرے ہوئے بالوں والا ہونا۔ ۔ الشعرُ: بیماری سے بالوں کا گر جانا۔ اِمْتَعَطَ السیفَ: تلوار سونتنا۔ ۔ الشعرُ: بیماری سے بالوں کا گر جانا۔ ۔ رُمْحَہُ: نیزہ نکالنا۔ اِمَّعَطَ و اِنْمَعَطَ الشعرُ: بیماری سے بالوں کا گر جانا۔ المَعِط: جس کے جسم پر بال نہ ہوں۔ الاَمْعَطُ مونث مَعْطاء جمع مُعْط: گنجا، جس کے بال گر گئے ہوں۔ لِصٌّ اَمْعَط: بھیڑیے جیسا چور۔ رملٌ اَمْعَط: ریت جس پر کوئی پودا نہ ہو۔ ارضٌ مَعْطاء: بنجر زمین۔ ٹوڈ گڈا کر پینا۔

معق: ۱۔ مَعَقَ ۔ مَعْقًا ہُ: ۔ السیلُ الارضَ: سیلاب کا زمین کو بہا لیجانا۔ مَعُقَ ۔ مَعْقًا و مَعَاقَۃً النہرُ: دریا کا گہرا ہونا۔ صفت مَعِیق مونث مَعِیقَۃ۔ اَمْعَقَ البئرَ: کنویں کو گہرا کرنا۔ تَمَعَّقَ: گہرا ہونا۔ المَعْق و المَعَق و المُعُق: گہرائی۔ جمع اَمْعاق و اَماعِق و اَماعِیق:
۲۔ مَعِقَ مَعَقًا الرجُلُ: خراب معدے والا ہونا۔ تَمَعَّقَ الرجُلُ علینا: اس نے ہمارے ساتھ بدخلقی کی۔ المَعْق: بدخلقی۔
۳۔ المَعْق: بنجر زمین۔

معك: ۱۔ مَعَكَ ۔ مَعْكًا الشیءَ: کو ملنا۔ ۔ الرجُلَ: کو ذلیل کرنا، کی بے عزتی کرنا۔ ۔ فلانًا فی الخصومۃ: پر دشمنی میں غالب آنا۔ ۔ ہُ دَیْنَہُ و بدَیْنِہ: کے قرض کو ٹالنا۔ مَعَّكَہُ فتَمَعَّكَ: کو زمین پر لوٹ پوٹ کرنا اور اس کے نتیجہ میں زمین پر لوٹ پوٹ ہونا۔ مَاعَكَ مُمَاعَکَۃً ہُ بدینِہ: کے قرض کو ٹالنا۔ المَعِك: سخت جھگڑالو۔ ۔ والمِمْعَك: قرض ٹالنے والا۔
۲۔ مَعُكَ ۔ مَعَاکَۃً: بے وقوف ہونا۔ المَعِك: احمق، بے وقوف۔
۳۔ المَعْکَرُونۃ (ط): ایک قسم کا مشہور کھانا (اطالوی زبان میں)۔

معل: ۱۔ مَعَلَ ۔ مَعْلًا الشیءَ: کو چرانا، اچک لینا۔ ۔ اَمْرَہُ: کام کو اپنے ساتھیوں سے پہلے جلد سرانجام دینا۔ ۔ الرجُلُ: تیز چلنا۔ ۔ ہُ عن الشیءِ: کو سے پھرتی کیساتھ ہٹا دینا۔ اَمْعَلَ ہُ عن الشیءِ: کو سے پھرتی کیساتھ ہٹا دینا۔ اِمْتَعَلَ الرجُلُ: پے در پے نیزے مارنا۔ المَعِل من الناس: پھرتیلا، جلدباز۔ المَعْل (مص): کہا جاتا ہے: مالكَ منہ مَعْلٌ: تمہارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔
۲۔ مَعَلَ ۔ مَعْلًا الخشبۃَ: لکڑی چیرنا۔

معن: ۱۔ مَعَنَ ۔ مَعْنًا و مَعُنَ ۔ مُعُونًا الماءُ: پانی کا نرم رفتار سے چلنا۔ صفت مَعِین۔ ۔ الفرسُ: دوڑنے میں لمبے ڈگ بھرنا، دور تک نکل جانا ۔ المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کو سیراب کرنا۔ مَعِنَ ۔ مَعَنًا المکان او النبتُ: جگہ یا پودوں کا پانی سے سیراب ہونا۔ اَمْعَنَ الوادی: وادی کا بہت جاری پانی والا ہونا۔ اَمْعَنَ مالُہُ: مال کا زیادہ ہونا، کم ہونا (ضد)۔ اَمْعَنَ الماءَ: پانی کا نرم رفتار سے بہنا۔ ۔ فلانٌ الماءَ: کا پانی بہانا۔ ۔ تِ الارضُ: زمین کا سیراب ہونا۔ ۔ فی الطلب: ڈھونڈ میں مبالغہ کرنا۔ ۔ فی الامر: معاملہ کی تہ تک پہنچ جانا ۔ الضبُّ فی جحرہ: گوہ کا اپنے بل میں دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ ۔ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑ میں دور تک نکل جانا ۔ النظرَ فی الامر: معاملہ کو بہت گہرائی تک سوچنا۔ تَمَعَّنَ: ذلیل ہونا، حقیر ہونا ۔ فی الامر: معاملہ کا احتیاط سے جائزہ لینا۔ المَعْن (مص): مفید چیز، ذلت، بہت، کم (ضد)، آسان، بہت مالدار، تھوڑے مال والا (ضد)، کھلا اور ظاہر پانی۔ المَعْنَۃ: مَعَنَ کا اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے: مالہ سَعْنَۃٌ و لا مَعْنَۃٌ: اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ المَعْنِیّ: زیادہ مال والا، تھوڑے مال والا (ضد)۔ الماعُون: بارش، پانی، گھر میں برتنے کی چیزیں مثلاً کلہاڑی، ہانڈی وغیرہ، بھلائی، نیکی، فرمانبرداری، زکوۃ۔ المَعِین جمع مُعُنات و مُعُن: بہتا پانی۔ کہا جاتا ہے: ماءٌ مَعِین: بہتا یا جاری پانی۔ سقاءٌ مَعِین: مشک جس کا پانی بہتا ہو۔ المُعُنات والمُعْنان: نالے، ندیاں و میدان، وادی میں پانی کی ندیاں۔ کلاءٌ مَمْعُون: وہ گھاس جس میں پانی جاری ہو۔ روضٌ مَمْعُون: بہتے پانی سے سیراب کیا جانے والا باغ۔
۲۔ مَعَنَ ۔ مَعْنًا النعمۃَ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ ۔ بالحق: حق سے انکار کرنا، حق کا اقرار کرنا (ضد)۔ اَمْعَنَ بالحق: حق کا انکار کرنے کے بعد اقرار کرنا، حق کا انکار کرنا۔
۳۔ تَمَعْنَی یَتَمَعْنَی: معنی سمجھانا یا بیان کرنا۔
۴۔ المَعْن: طویل، لمبا، چھوٹا (ضد)، کھال، سطح، سرخ چمڑا۔ المَعَان: منزل۔ الماعُون: کاغذ کا رم یا دستہ۔
○ اَمْعَنَ فی: کے لئے تمام کوششوں کو وقف کرنا، کام توجہ سے کرنا، کا آرزومند ہونا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا، میں منہمک ہونا، کے لئے سرگرم ہونا، کا اچھی طرح جائزہ لینا، کا احتیاط سے مطالعہ کرنا، کی جانچ پڑتال، میں افراط و تفریط سے کام لینا، میں مبالغہ سے کام لینا، کو بہت دور تک لیجانا۔ اَمْعَنَ النظرَ فی: ﷲ نظریں گاڑنا، کو توجہ، غور یا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کا بغور جائزہ لینا، کی جانچ پڑتال کرنا۔ تَمَعَّنَ فی: میں منہمک ہونا، مستغرق ہونا، مصروف ہونا، کو توجہ سے دیکھنا، کا احتیاط سے جائزہ لینا، کو بغور دیکھنا، کی جانچ پڑتال کرنا۔ مَاعُون جمع مَوَاعِین: سامان عام استعمال کا برتن، آلہ، برتن، کوئی چیز رکھنے کے لئے ڈبہ،

بوتل وغیرہ۔ (اسم جنس) گھر کی چیزیں برتن، ساز و سامان، کاغذ کا رم (ream)۔ مَاعُونَة جمع مَاعُونَات و مَوَاعِين: سامان اتارنے کی کشتی، بجرا۔ بِتَمَعُّن: احتیاط سے، ہوش مندی سے۔

معو: ا۔ مَعَا يَمْعُو مُعَاءً السِّنَّوْرُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔

۲۔ امْعَى النخلُ: پکی ہوئی کھجوروں والا ہونا (کھجور کے درخت کا)۔ البُسْرُ: کھجور کا خوش مزا ہونا۔ المَعو: پکی ہوئی کھجور جو کچھ کچھ خشک ہونے لگے۔

۳۔ تَمَعَّى السقاءُ: مشک کا تن جانا، شر کا لوگوں میں پھیلنا۔

۴۔ مَعًى: اونٹ کے نیچے کے ہونٹ میں پھٹن و ترخن۔ المَعَى و المعي جمع أمعاء و المعاء جمع أمْعِيَة: آنت مذکر، کبھی مونث بھی آجاتا ہے۔

○ الأمْعَاءُ الدقيقة: چھوٹی آنتیں۔ المعي الغليظ: بڑی آنت۔ مِعَوِي: آنتوں کے متعلق، آنتوں کا، موتی جھیرا۔ الحُمَّى المِعَوِيَة: ٹائیفائیڈ بخار۔

مع: مَعْمَعَ اللحمَ: گوشت کو اچھی طرح نہ چبانا۔ الكلامَ: بات صاف اور واضح نہ کہنا۔ الشيءَ: کو خلط ملط کرنا۔ في عمده: کمزور وردی کام کرنا۔ الامرُ: معاملہ کا گڈمڈ ہونا۔ الكلبُ في الاناء: کتے کا برتن میں منہ ڈال کر چپڑ چپڑ پی جانا۔

مغث: ا۔ مَغَثَ مَغْثًا الدواءَ في الماء: دوا کو پانی میں بھگونا۔ الرجلَ: کو ہلکی مار مارنا، پچھاڑنا۔ کہا جاتا ہے: مَغَثَتْهُمُ الحُمّى: انہیں بخار نے آپکڑا۔ ـهُ في الماء: کو پانی میں ڈبونا، غرق کرنا۔ الشيءَ: کو خلط ملط کرنا۔ عِرضَ فلان: کی عزت خراب کرنا۔ مُغِثَ الرجلُ: پر بخار چڑھنا، بخار میں مبتلا ہونا۔ مَاغَثَ مِغَاثًا و مُمَاغَثَةً ـهُ: سے جھگڑا کرنا۔ المَغْثُ جمع مِغَاث: انگلیوں سے مل کر نرم کرنا، لڑائی۔ المَغِث: کشتی کرنے والا، پہلوان۔ المَغِيث: بارش کا پچھاڑا ہوا پودا، شریر آدمی۔

۲۔ المُغَاث (ن): چوڑے پتوں اور سفید پھول والا ایک درخت۔

معد: مَعَدَ مَعْدًا الشيءَ: کو چوسنا۔ الفصيلُ أمَّهُ: بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ الرجلُ في عيشه: آسودہ زندگی بسر کرنا۔ العيشُ البدنَ: خوراک کا جسم کو موٹا تازہ کرنا۔ فلانٌ: بھری جوانی والا ہونا۔ النباتُ: نباتات کا دراز ہونا۔ شَعرَهُ: کے بال اکھیڑنا۔ مَعِدَ مَعَدًا البدنُ: بدن کا گوشت سے بھرنا اور موٹا ہونا۔ أمْعَدَ: دیر تک پینا۔ الصبيّ: کو دودھ پلانا۔ المَعْد: ببول یا بیری کا گوند۔ (ن): ایک زہریلا پودا، بینگن۔ (ن): ککڑی کے مشابہ ایک پھل۔ (ن): ایک قسم کا درخت، بڑا ڈول۔ عَيشٌ مَعْدٌ: خوشحال زندگی۔

مغر: ا۔ مَغَرَ مَغْرًا في البلاد: ملک میں جلدی سے جانا۔ به بعيرُهُ: کو لے کر اونٹ کا تیز دوڑنا۔ أمْغَرَهُ بالسهم: تیر کو کسی کے آر پار کرنا۔

۲۔ مَغَّرَ الثوبَ: کپڑے کو سرخ مٹی یا گیرو سے رنگنا۔ أمْغَرَت الناقةُ: بیماری سے اونٹنی کا دودھ سرخ ہو جانا۔ صفت مُمْغِر۔ المَغَر و المُغْرَة: ہلکا سرخ رنگ۔ المَغْرَة و المَغِرَة: سرخ مٹی، گیرو۔ الأمْغَر: گیرو جیسے رنگ والا، سفید چہرہ میں سرخی کی جھلک والا۔ لَبَن مَغِير: دودھ جس میں خون کی آمیزش ہو۔ المِمْغَرَة: وہ زمین جس سے گیرو نکلے۔

۳۔ المَغَارَة: دیکھو غور۔

○ مَغَر و مُغْرَة: سرخی مائل، سرخ گوں، سرخ رنگ کا۔ أمْغَر: سرخی مائل بھورا۔

مغس: مَغَسَ مَغْسًا الشيءَ بيده: کو ہاتھ سے ٹٹولنا۔ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ مُغِسَ: دیکھو مُغِصَ۔

مغص: ا۔ مَغِصَ مَغَصًا و مُغِصَ مَغْصًا: آنتوں میں مروڑ ہونا۔ صفت مَمْغُوص۔ أمْغَصَ ـهُ: میں مروڑ پیدا کرنا۔ تَمَغَّصَ ـهُ بطنُهُ: کے پیٹ میں مروڑ ہونا، درد ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَمَغَّصَ بطني: میرے پیٹ میں درد ہوا۔ تَمَغَّصَنِي الشيءُ و تَمَغَّصْتُ منه: اس نے مجھے ایذا دی۔ المَغْص (مص): آنتوں میں درد، مروڑ۔

۲۔ المَغص جمع أمْغَاص واحد مَغَصَة: عمدہ اونٹ۔

○ مَغْرَبَة: مراکشی بنانا۔

○ مَغْص: مروڑ کا باعث بننا، مروڑ پیدا کرنا۔ مُغِصَ مَغَصًا: کو مروڑ ہونا، درد شکم ہونا، درد شکم میں مبتلا ہونا، کو مروڑ لگنا، قولنج میں مبتلا ہونا۔ مَغْص و مَغَص و مَغِيص: مروڑ، قولنج، درد شکم۔ مَغْص كُلْوِي: گردوں کا قولنج۔ مَمْغُوص: درد شکم، قولنج میں مبتلا، جسے مروڑ لگے ہوں۔

مغط: مَغَطَ مَغْطًا و مَغَّطَ الشيءَ: کو لمبا کرنے کے لئے کھینچنا۔ تَمَغَّطَ الشيءُ: کھنچنا، لمبا ہونا۔ البعيرُ: اونٹ کا دوڑنا۔ الفرسُ: گھوڑے کا بہت تیز دوڑنا۔ امْتَغَطَ: کھنچنا، لمبا ہونا۔ السيفَ: تلوار سونتنا۔ امَّغَطَ الشيءُ: کھنچنا، لمبا ہونا۔ المُغَّيط: گوند صفت، مادہ جس سے دھاگے بنائے جاتے ہیں، جن سے روئی یا ریشم کے دھاگوں کے ساتھ انواع و اقسام کے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ (لفظ عوامی ہے فصیح مَطَّاط ہے)۔ المُمَغَّط: بہت لمبا۔

○ مُتَمَغِّط: جسے تانا، پھیلایا اور کھینچا جا سکے، سکڑنے والا، پھیلنے والا، لچکدار (ربڑ)، سخت لیس دار، جس پر لیسدار تہہ جم گئی ہو۔

○ مَغْطَسَ ـهُ: کو مقناطیسی قوت دینا، کو مقنانا، کو مقناطیسی بنانا۔ تَمَغْطَسَ: مقناطیسی ہو جانا، مقناطیسی قوت دیا جانا۔ مَغْطَسَة: مقناطیسی قوت، مقناطیسیت۔ مُمَغْطَس: مقناطیسی قوت دیا گیا، مقناطیسی۔

مغل: ا۔ مَغَلَ مَغَلاً ت الدابةُ: سبزی کے ساتھ مٹی کھانے سے جانور کے پیٹ میں درد ہونا۔ صفت مَغِلَة و مَمْغُولَة اسم: المَغْلَة۔ مَغْلاً و مَغَالَةً بالرجل: کی چغلی کھانا۔ مَغِلَ مَغَلاً ت الدابةُ: سبزی کے ساتھ مٹی کھانے سے جانور کے پیٹ میں درد ہونا۔ ت عينُهُ: آنکھ کا خراب ہونا۔ أمْغَلَ القومُ: ایسے جانوروں کا مالک ہونا جن کے پیٹ میں مٹی ملی گھاس کھانے سے درد ہو گیا ہو۔ به عند السلطان: سلطان سے کی چغلی کھانا۔ المَغَل جمع أمْغَال: آنکھ کا کیچڑ۔ المَغْلَة جمع مِغَال: مغل کا اسم مرة، فساد، خرابی۔ المَغَالَة (مص): خیانت، دغابازی۔

۲۔ مَغِلَ مَغَلاً ت الحاملُ بولدها: حاملہ کا بچے کو دودھ پلانا۔ أمْغَلَ ت الحاملُ ولدَها: حاملہ کا بچے کو دودھ پلانا۔ المَغْل و المَغَل جمع أمْغَال: حاملہ عورت کا دودھ۔ المُغْلَة جمع مِغَال: دنبی یا بکری جو سال میں دو دفعہ بچے دے۔

۳۔ المُغْل جمع مُغُول: مُغل (ایک نسل کا نام)۔

مغن: ا۔ مَغْنَطَ الحديدَ: لوہے کو مقناطیس پلانا۔ تَمَغْنَطَ: لوہے کا مقناطیس پینا۔ المَغْنَطِيس و المَغْنَاطِيس (ف): ایک دھات جو لوہے اور دیگر دھاتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مقناطیس (یونانی لفظ)۔

۲۔ المَغْنُوليا (ن): درخت اور پودے جن پر بڑے بڑے خوبصورت پھول اگتے ہیں۔

۳۔ المَغْنِيسيا و المنازيا: سفید مٹی جس کی نہ بو ہوتی ہے نہ ذائقہ، علاج کے کام میں آتی ہے (یونانی لفظ)۔ مگنیشیا (magnesia)۔

مغو: مَغَا يَمْغُو مُغُوًّا السنّورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ المُغَاء و المُغُوّ: بلی کی میاؤں میاؤں۔

مغي: مَغَي يَمْغِي مَغْيًا: ایسی بات کرنا جو کچھ سمجھ میں آ سکے۔ تَمَغَّى الاديمُ: چمڑے کا ڈھیلا ہونا۔ المَغْي

(مص) في الاديم: چمڑے کا ڈھیلا پن۔۔۔ في الانسان: کسی کے متعلق وہ کہنا جو اس میں نہ ہو، مذاق میں یا سنجیدگی سے۔ الساعِيَة: شک پیدا کرنے والی۔

○ خَشَبُ المُغْنة و خشبُ المُغْنى: مہوگنی لکڑی (جو امریکہ میں پائی جاتی ہے) مَغْنَطَ ہٗ: کو مقناطیسی قوت دینا، کو مقناطیسی بنانا۔ مَغنطيس: مقناطیس۔ مغنطیس کَهربَانی: برقی مقناطیس (electro magnet) مغناطِس و مُغناطیس: مقناطیس، مقناطیسی قوت، مقناطیسیت۔ مغنطِيسِی: مقناطیسی، تنویمی (Hypnotic)۔ مغنطيسية و مغناطيسية: مقناطیسی قوت، مقناطیسیت۔ مغنيسيا: (magnesia) مگنیشیا۔ المُغول: منگولی، مغل (نسل) بلادُ المُغول: منگولیا۔ مُغولِیّ: منگولین (Mongolian)۔

مق: امَقّ مَقًّا الشیءَ: کو پھاڑ کر کھولنا۔۔۔ اللّهُ عینَهٗ: اللہ کا کسی کی آنکھ اکھاڑ دینا۔ المَقَق: دو چیزوں کے درمیان کی دوری، پتلے پن کے ساتھ بہت لمبائی۔ مذ أمَقّ م مَقّاء جمع مُقّ: فراخ و وسیع شہر، پتلا اور بہت لمبا۔

۲۔مَقّ مَقًّا الولدُ من الابریق: لڑکے کا لوٹے سے پانی چوسنا (عام زبان میں) مَقّق الطائر فرخَهٗ: پرندے کا اپنے بچے کو چوگا دینا۔ علی عیاله: اپنے اہل وعیال کے خرچ اخراجات میں بخل یا ناداری سے تنگی کرنا۔ مَقّق الشرابَ: شراب کو تھوڑا تھوڑا کر کے پینا۔ مافی العظم: ہڈی کا سب گودا نکال لینا۔ وامتقّ الفصیلُ مافی الضرع: بچے کا تھن میں سے سب دودھ پی جانا۔ المَقْقَه: دودھ پینے والے بکری کے بچے، نبیذ تھوڑی تھوڑی کر کے پینے والا۔ فخذ مَقّاء: گوشت سے ننگی ران، ران جس پر گوشت نہ ہو۔

۳۔مَقّ مَقًّا العنبُ: نرم گودے والا ہونا (انگور کا) صفت مقاق۔

۴۔المَقْقَة: جاہل لوگ۔

۵۔مَقْمَق: نرم اور آسانی سے مطیع ہو جانا۔۔۔ الشیءَ: کو سدھانا، زیر کرنا۔۔۔ الولدُ امَّهٗ: بچے کا اپنی ماں کے پستان کو سختی سے چوسنا۔ المُقامِق: حلق کے آخری حصہ سے بولنے والا۔

مقت: مَقَتَ مَقْتًا و مَاقَتَ الرجلَ: سے بہت بغض رکھنا، نفرت کرنا۔ مَقُتَ مَقاتةً فلانٌ إلیّ: مجھے فلاں سخت ناپسند ہے۔ مَقّت ہٗ: سے سخت بغض رکھنا۔۔۔ ہٗ الی قبحُ فعلِه: اسکے کام کی برائی نے اسے میرے نزدیک قابل نفرت بنا دیا۔ تَمَقّتَ اِلَیّ: مجھے ناپسند ہونا۔ تماقتوا: بعض کا بعض سے بغض رکھنا۔

المَقْت (مص): زواج المقت، باپ کی بیوہ سے شادی۔ المَقتِیّ: باپ کی بیوہ سے شادی کرنے والا۔ المَقِیت: قابل نفرت۔

○ مَقَتَ مَقْتاہ ہٗ: سے سخت نفرت کرنا، کراہت کرنا۔ مَقُتَ مَقاتَةً: نفرت انگیز ہونا، قابل نفرت ہونا، نفرت کیا جانا، کریہ ہونا۔ مَقَّتَ بمعنی مَقَتَ۔ مَقَّتَ ہٗ الی: کو کے نزدیک قابل نفرت بنانا۔ الی ہٗ: کو سے سخت نفرت کرانا۔ مَقْت: نفرت، بے حد نفرت، سخت نفرت، بیزاری، کراہت، تنفر، قابل نفرت، نفرت انگیز، کریہ۔ مَقِیت و ممقوت: نفرت کیا گیا، قابل نفرت، نفرت انگیز، کریہ، سخت ناپسند۔

مقر: امقَرَ مَقْرًا عنقه: کی گردن پر لاٹھی مار کر ہڈی توڑ دینا۔

۲۔مَقَرَ مَقْرًا السمكةَ المالحةَ: نمکین مچھلی کو سرکہ میں ڈالنا۔ مَقِرَ مَقَرًا الشیءُ: چیز کا کڑوا یا کھٹا ہونا۔ صفت مَقِر۔ أمْقَرَ السمكةَ المالحةَ: نمکین مچھلی کو سرکہ میں ڈالنا۔۔۔ الشیءُ: کڑوا ہونا۔۔۔ اللبنُ: دودھ کا بے مزہ ہونا۔

۳۔اِمتقرَ الرکیّةَ: کنویں کا پانی نکلنے کے بعد اس کو کھودنا۔

۴۔اِمقرَّ اِمقِرارًا الرجلُ: کی رگوں کا ابھرنا۔

۵۔المَقْر و المَقِر (ن): ایلوا۔

مقس: امقَسَ مَقْسًا القربةَ: مشک بھرنا۔۔۔ الشیءَ فی الماء: چیز کو پانی میں ڈالنا یا ڈبونا۔ مَقِس مَقَسَات نفسُهٗ: کا جی متلانا۔ مَقَسَ الماءَ: پانی بہت گرانا۔ مَاقَسَ مُماقَسَةً ہٗ: سے غوطہ خوری میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے هو یُماقِسُ الحوتَ: وہ غوطہ خوری میں مچھلی سے مقابلہ کرتا ہے یعنی وہ اپنے سے زیادہ طاقت ور سے جھگڑتا ہے۔ تَمَقَّسَتْ نفسُهٗ: کا جی متلانا۔

۲۔مَقَسَ مَقْسًا الماءُ: پانی بہنا۔۔۔ فلانٌ فی الارض: ملک میں پھرنا۔

مقط: امقَطَ مَقْطًا ہٗ: کو غضبناک کرنا۔

۲۔مَقَطَ مَقْطًا ہٗ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔۔۔ عنقَهٗ: کی گردن توڑنا۔۔۔ الکرةَ: گیند کو زمین پر مار کر اٹھانا۔۔۔ بالقرن و مقطَه: مقابل کو پچھاڑنا۔ مَقَطَ ہٗ: کو پچھاڑنا۔ الساقط (فا): کنکر گرا کر شگون لینے والا۔

۳۔مَقَطَ مَقْطًا الشیءَ: کو باندھنا، کو مضبوط رسی سے باندھنا۔۔۔ ہٗ بالأیمان: کو قسم دلانا۔ الحبلَ: رسی بٹنا۔ مَقَطَ الابلَ: اونٹوں کو رسی سے باندھنا۔ الساقط: ڈول کی رسی۔ المِقط جمع أمقاط: پرندہ شکار کرنے کا دھاگا۔ المِقاط جمع مُقُط: چھوٹی مضبوط بٹی ہوئی رسی۔

۴۔مَقَطَ مَقْطًا الشیءَ: کے گھونٹ پینا۔

۵۔المَقِط: چھ ماہ میں پیدا ہونے والا بچہ۔

○ مَقدُونِس: اجوائن خراسانی (parsely)۔ مَقدُونِی: صفت اور اسم: مقدونیا کا، مقدونیا کا باشندہ۔

مقع: امقَعَ مَقْعًا الشرابَ: شراب کو حرص سے پینا۔۔۔ الفصیلُ امَّهٗ: بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ اِمتَقَعَ الفصیلُ مافی ضرعِ امّه: بچہ کا اپنی ماں کے تھن کا سب دودھ پینا۔

۲۔مَقَعَ مَقْعاهٗ بشرٍّ: پر تہمت لگانا۔ اُمْقِعَ: کا غم، خوف یا شک سے رنگ بدلنا۔ المَقْع (مص) جمع أمقُع: ٹھہرا ہوا پانی۔

○ مَقَعَ مَقْعًا ہٗ: کو شوق یا حرص سے پینا، کو پھینکنا۔ أُمْقِعَ: پیلا پڑ جانا۔ مُمتَقَع: پیلا، زرد، پھیکا، بے رونق، زرد رو، پھیکا زرد۔

مقل: امقَلَ مَقْلًا ہٗ: کو پانی میں ڈبونا۔ فی الماء: پانی میں غوطہ لگانا۔ المَقْلة: برتن میں کنکری ڈال کر اس پر اتنا پانی ڈالنا کہ ڈھک جائے۔ مَاقَلَ ہٗ و تَمَاقَلَا: ایک دوسرے کو پانی میں غوطہ دینا۔ اِمتَقَلَ: پانی میں بار بار غوطہ لگانا۔ المَقْل (مص): کنویں کی تہہ۔ کنویں کی تہہ کی مٹی و کنکری۔ سمندر میں غوطہ لگانے کی جگہ۔ المَقْلة: مقل کا اسم مرۃ۔ پانی کا اندازہ لگانے کی کنکری جس سے ناپ ناپ کر سفر میں پانی تقسیم کیا کرتے تھے تاکہ پانی کی تقسیم سب پر برابر ہو جائے اور کسی کو کم یا زیادہ نہ پہنچے۔

۲۔مَقَلَ مَقْلاہٗ: کی طرف دیکھنا۔ کہا جاتا ہے مَقَلَتْهُ عینی: اسے میری آنکھ نے دیکھا۔ ما مقلت عینای مثلَهٗ: میری آنکھوں نے اس جیسی چیز نہیں دیکھی۔ المُقْلة جمع مُقَل: آنکھ کا ڈھیلا، آنکھ۔

۳۔المُقْل (ز): گوگل کا پھل، گوگل (ن): کھجور سے مشابہ ایک درخت۔

○ مَقَلَ مَقْلاہٗ: کو دیکھنا، کی طرف نگاہ کرنا۔ مُقْلة جمع مُقَل: آنکھ، آنکھ کا ڈھیلا۔ مُقلةُ العین: آنکھ کا ڈھیلا۔

مقه: امقِهَ مَقَهًا: سرخ پلکوں والا ہونا۔ صفت أمْقَه۔

الأَمْقَهُ م مَقْهاء جمع مُقْه: سرخ پلکوں والا۔

۲۔ المَقَهُ: ہلکا نیلا رنگ۔ الأَمْقَه م مَقْهاء جمع مُقْه: دور، جگہ جہاں درخت نہ اگتے ہوں، بنجر جگہ، خود سر جو یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کدھر جاتا ہے۔

مقو: مَقَا يَمْقُو مَقْوًا السيفَ: تلوار کو صیقل کرنا۔ الفصيلُ أُمَّهُ: بچہ کا اپنی ماں کا دودھ سختی سے چوسنا۔ الطستَ: طشت کو دھونا۔ مَقَى يَمْقِي مَقْيًا السيفَ: تلوار صیقل کرنا۔

مك: ا۔ مَكَّ ـُ مَكًّا العظمَ: ہڈی کا تمام گودا چوسنا۔۔۔ الشيءَ: کو ہلاک کرنا۔۔۔ غريمَهُ: قرضدار سے وصولی میں اصرار کرنا۔ مَكَّكَ على غريمه: قرضدار سے وصولی میں اصرار کرنا۔ تَمَكَّكَ و امْتَكَّ العظمَ: ہڈی کا سارا گودا چوس لینا۔۔۔ الفصيلُ ما في ضرع امه: بچہ کا اپنی ماں کے تھن کا سب دودھ چوس لینا۔ المُكَاك و المُكَاكة: ہڈی کا مغز یا گودا۔ المَكُّوك جمع مَكَاكِيك: پینے کا پیالہ۔

۲۔ المَكُّوك جمع مكاكِيك: (1½) صاع کا ایک پیمانہ۔ کپڑا بننے کی نالی (ارمنی لفظ)۔

۳۔ مَكْمَكَ الرجلُ: چلنے میں لڑکھڑانا۔۔۔ المخَّ: ہڈی کا سارا گودا چوسنا۔ تَمَكْمَكَ العظمَ: ہڈی کا سارا گودا چوس لینا۔

مَكَّة: عموماً مكة المُكَرَّمة: مکہ معظمہ۔ مَكِّيّ: صفت و اسم: مکہ کا، مکہ کا باشندہ۔ مَكُّوك جمع مَكَاكِيك: پینے کا پیالہ۔ جلاہے کی نال۔ (shuttle) مَاكُوك جمع مَوَاكِيك: پینے کا پیالہ، جلاہے کی نال (shuttle)۔

مكث: مَكَثَ ـُ مَكْثًا و مُكْثًا و مُكُوثًا و مُكْثَانًا و مِكِّيثَى و مِكِّيثَاء بالمكان: کسی جگہ قیام کرنا، ٹھہرنا، صفت مَاكِث: اسم: المُكْث و المِكْث۔ مَكُثَ ـُ مَكَاثَةً: ٹھہرنا، صبر کرنا، سنجیدہ ہونا۔ أَمْكَثَ هُ: کو ٹھہرنے کے لئے کہنا۔ تَمَكَّثَ: کسی بات کا انتظار کرنا، پر توجہ مرکوز کرنا۔۔۔ بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔۔۔ في الامر: میں ذرا رکنا۔ المَكِيث جمع مُكَثاء و مَكِيثون: ٹھہرنے والا، سنجیدہ و صابر، سست۔

مَكَثَ ـُ مَكْثًا و مُكُوثًا ب: کسی جگہ میں رہنا، ٹھہرنا، قیام کرنا، اقامت کرنا۔ مَكْث و مُكُوث: رہنا، ٹھہرنا، دیر لگانا، اقامت گزین ہونا، قیام، عارضی قیام۔

مكد: ا۔ مَكَدَ ـُ مَكْدًا و مُكُودًا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا صفت ماكِد۔ ماءٌ ماكِد: جاری پانی۔ ناقةٌ ماكِدة و ناقة مَكداء و مَكُود جمع مُكُد و مَكائِد: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔

۲۔ المِكَدّ: کنگھی۔

مَكَدام: پکی سڑک (انگریزی لفظ)۔ مَكْدُونِي: صفت اور اسم: مقدونیا کا، مقدونیا کا باشندہ۔ مکدونیا: مقدونیا۔

مكر: ا۔ مَكَرَ ـُ مَكْرًا الرجلَ و به: کو دھوکا دینا۔۔۔ اللّٰهُ فلانًا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو دھوکہ دینے کی سزا دینا۔ مَاكَرَهُ: کو دھوکا دینا، فریب دینا۔ أَمْكَرَهُ: کو دھوکا دینا۔۔۔ هُ الله: کو دھوکہ دینے کی سزا دینا۔ تماكروا: بعض کا بعض سے حیلہ کرنا۔ الماكر جمع مَكَرَة و ماكِرُون: دھوکا دینے والا۔ المَكْر (مص) دھوکا۔ دھوکے کی سزا۔ المَكْرَة جمع مَكْر و مُكُور: مکر کا اسم مرۃ۔ جنگ میں تدبیر و حیلہ۔ المَكّار و المَكُور: بہت مکر و فریب کرنے والا۔

۲۔ مَكَرَ ـُ مَكْرًا الثوبَ: کپڑے کو گیرو سے رنگنا۔۔۔ هُ: کو رنگنا۔ مَكِرَ ـَ مَكَرًا: سرخ ہونا۔ اِمْتَكَرَ و امْتُكِرَ: سرخ رنگ سے رنگا جانا، سرخ رنگ ہونا۔ المَكْر: گیرو۔

۳۔ مَكَرَ ـُ مَكْرًا الارضَ: زمین کو سیراب کرنا۔ المَكْرَة جمع مَكْر و مُكُور: کھیت کی سیرابی۔ (ن): بے پھول کا درخت، خوبصورت موٹی پنڈلی۔

۴۔ مَكَّرَ: غلہ جمع کرنا، گرانی کی امید میں اناج روکے رکھنا۔

۵۔ المِيكْرُوسْكُوب: یونانی لفظ: خوردبین (microscope)۔ اس کی عربی مُجْهِر ہے۔

مَكَرَ ـُ مَكْرًا ب: کو دھوکا دینا، بہکانا، سے دغا بازی کرنا، سے بے ایمانی کرنا، کو جل دینا، ٹھگ لینا، کو فریب دینا، سے دو رخی سے کام لینا۔ مَاكَرَهُ: کو دھوکا دینے کی کوشش کرنا۔ مَكْر: عیاری، چالاکی، مکاری، روباہ خصلتی، دھوکے بازی، منافقت، چالبازی، فریب، دھوکا، دغا۔ مَكْرَة: چال، حیلہ، چالبازی، داؤ، فریب، دھوکا، داؤ پیچ۔ مَكّار و مَكُور: چالاک، عیار، مکار، کایاں، فریبی، چالباز، زیرک، ٹھگ، دھوکے باز، دغاباز۔ مَاكِر جمع مَكَرَة: چالاک، عیار، مکار، فریبی، چالباز۔ مِكْرُوب جمع مِكْرُوبات و مَكارِيب: جرثومہ (microbe)۔ مَكَرُونة: سیویاں (macaroni)۔

مكس: مَكَسَ ـِ مَكْسًا: ٹیکس جمع کرنا۔۔۔ في البيع: قیمت کم کرنا۔۔۔ ہ: پر ظلم کرنا۔ مكس الرجل کو خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا۔ مَاكَسَ مِكَاسًا و مُمَاكَسَةً هُ: سے قیمت کم کرانا، کی مخالفت کرنا۔ تَمَاكَسَ الرجُلان في البيع: خرید و فروخت میں آپس میں جھگڑنا۔ المَكْس (مص) جمع مُكُوس: محصول، چونگی، ٹیکس۔ الماكِس و المَكَّاس: ٹیکس وصول کرنے والا، اسے صاحب المَكْس بھی کہتے ہیں۔

مَكَسَ ـِ مَكْسًا و مَكْس: ٹیکس جمع کرنا۔ مَاكَسَ هُ: کے ساتھ سودا کرنا، معاملہ طے کرنا، سے بول تول کرنا۔ مَكْس جمع مُكُوس: ٹیکس، خصوصاً ایکسائز یا سیلز ٹیکس، ٹال (toll)، کسٹم ڈیوٹی، محصول، منڈی کے واجبات (market dues)۔ دارُ المكوس: کسٹم ہاؤس۔ مَكَّاس: ٹیکس کلکٹر۔ المَكْسِيك: میکسیکو (Mexico)۔

مكن: ا۔ مَكُنَ ـُ مَكَانَةً عند الامير: حاکم کے ہاں رتبہ اور اختیار والا ہونا۔۔۔ الشيءُ: قوی مضبوط اور پختہ ہونا صفت ماكِن۔ مَكَّنَ هُ من الشيء: کو پر قدرت دینا، اختیار دینا، کو پر قادر بنانا۔۔۔ الشيءَ فَتَمَكَّنَ: کو قوی مضبوط اور پختہ بنانا اور قوی مضبوط اور پختہ ہو جانا۔ أَمْكَنَ الامرُ فلانًا و لفلان: کام کا کسی پر آسان ہونا، کے لئے ممکن ہونا، کر سکنا۔ کہا جاتا ہے: فلان لا يمكنه النهوض: فلاں کھڑا نہیں ہو سکتا، اٹھ نہیں سکتا۔ و أَمْكَنَنِي الامرُ: کام میرے لئے ممکن ہوا، آسان ہوا۔۔۔۔ هُ من الشيءِ: کو کے قابل بنانا، کو پر اختیار دینا، قدرت دینا، قادر بنانا۔ تَمَكَّنَ عند الامير: حاکم کے ہاں بلند و صاحب مرتبہ ہونا۔۔۔ المكانَ و به: کسی جگہ مضبوط اور جمے ہوئے قدموں والا ہونا۔۔۔ و استَمْكَنَ من الامر: پر قادر ہونا، کامیاب ہونا۔ المُكْنَة: طاقت، شدت۔ المَكِنَة: تمکن۔ المَكان جمع أَمكِنَة و أَمْكُن و جمع الجمع أَمَاكِن: جگہ۔ کہا جاتا ہے هو من العلم بمكان: اس کو علم میں ایک خاص مرتبہ اور درجہ حاصل ہے۔ هذا مكانُ هذا: یہ اس کی جگہ۔ المَكَانَة (مص) جمع مَكانات: منزلت، مرتبہ، بلندی، شان، آہستگی۔ کہا جاتا ہے: امشِ على مكانتك: متانت اور وقار کے ساتھ چل۔ المَكِين جمع مُكَناء: مرتبہ والا۔ کہا جاتا ہے هو مكين عند الامير: وہ حاکم کے نزدیک مرتبہ والا ہے۔ المَكِينَة: آہستگی۔ کہا جاتا ہے: امشِ على مَكِينَتِك: آہستگی سے چل۔ هو أَمْكَنُ من غيره: وہ دوسروں سے زیادہ مرتبہ اور حیثیت والا ہے۔ المُتَمَكِّن في علم النحو: وہ

کلمہ جومنی نہ ہو۔ المُتَمَکِّنُ الأَمْکَن: منصرف اسم المتمکن غیر الأمکن: غیر منصرف اسم غیر المتمکن فی عند النحو: غیر منصرف جیسے کیف و این۔

۲۔ مَکِنَ ـ مَکَنَات الجرادۃُ و نحوها: ٹڈی کا انڈے دینا۔ یا انڈوں والی ہونا صفت مَکُون جمع مِکان۔ أُمْکَنَ ت الجرادۃُ: ٹڈی کا انڈے دینا۔ المَکْن و المَکِن واحد مَکْنَة و مَکِنَة جمع مَکْنَات و مَکِنَات: ٹڈی وغیرہ کے انڈے۔

○ المُکَلاَّ: عدن کی بحری بندرگاہ، حضرموت کا بڑا شہر۔

○ مَکُنَ ـ مَکَانَةً: مضبوط ہونا یا ہوجانا ـــ عند: کے ہاں با اثر ہونا، ذی اثر ہونا، رسوخ رکھنا، غلبہ اور زور کا مالک ہونا۔ مَکَّنَ ہ: کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، جوڑنا، گہرا کرنا، مضبوطی سے قائم کرنا، کو وزن دینا، وقعت دینا، کو مضبوطی سے رکھنا، کو مضبوط موقف فراہم کرنا۔ ـــ ہ من: کو کچھ کرنے کے قابل بنانا، کو کچھ کرنے کا امکان دینا، کو کے قابل بنانا، کیلئے کچھ ممکن کرنا ـــ من ہ: کو کے ہاتھ میں رکھنا ـــ ہ من: کو کچھ مہیا کرنا، فراہم کرنا ـــ ل: کو مضبوط پوزیشن دینا ـــ ل فی: کو پر اختیار دینا۔ أَمْکَنَ ہ من: کو کچھ کرنے کے قابل بنانا ـــ ہ: کیلئے ممکن ہونا، قابل عمل ہونا۔ یمکنہ ان: وہ کچھ کرسکتا ہے یُمْکِنُ ان: یہ ممکن ہے کہ، ایسا ہوسکتا ہے کہ۔ اکثرَ ما یمکن: جس قدر ممکن ہے۔ لا یُمکن: یہ ناممکن ہے۔ تمَکَّنَ عند: کے ہاں اثر و رسوخ رکھنا، حاصل کرنا، قدر و وقعت رکھنا، وقار رکھنا، اختیار رکھنا یا حاصل کرنا۔ تَمَکَّنَ: دیسی یا ملکی ہونا، مقیم ہونا، باشندہ ہونا، پھیلنا، مستحکم ہونا، طاقت پکڑنا ـــ من: سے استفادہ کرنا، کا قبضہ لینا، پر قابو پانا، پر پورا غلبہ رکھنا، پر قدرت حاصل کرنا ـــ من: کی پوزیشن میں ہونا، کرسکنے کے قابل ہونا، کے قابل ہونا، کرنے کی طاقت رکھنا۔ اِسْتَمْکَنَ: مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، گہرا ہونا، مضبوطی سے قائم ہونا ـــ من: سے فائدہ اٹھانا، کا قبضہ لینا، پر غلبہ رکھنا، کو قابو میں رکھنا، کو زیر کرنا، پر کمال حاصل کرنا، کو کرنے کے قابل ہونا، کے لائق ہونا۔ مُکْنَہ و مَکِنَہ: طاقت، قابلیت، حیثیت، لیاقت، استعداد، ذہنی صلاحیت، امکان، قوت، مضبوطی، استواری، شدت، تیزی، طاقت، توانائی دم خم، زور، قوت۔ مَکَان جمع أَمْکِنَة و أَمَاکِن: جگہ۔ مَکِین جمع مُکَنَاء: مضبوط، قوی، ٹھوس، مضبوطی سے قائم، غیر متزلزل، گہری بنیاد پر مبنی، جو گھر کرچکی ہو، گہری، پکی، پختہ، راسخ، شدید، گہرا، پکا، با اثر، ممتاز، طاقت ور، اثر آفریں۔ بقدر الامکان یا علی قدر الامکان: جس قدر ممکن ہے، جہاں تک ممکن ہے: عدمُ الامکان: ناممکن بات، امر محال۔ عندَ الامکان: جب (اگر) ممکن ہو، شاید، کسی طرح۔ فی امکانہ أن: یہ اس کے اختیار میں ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ هو فی الامکان: یہ امکان کی قلمرو میں ہے۔ لیس فی الامکان: یہ ناممکن ہے، ناقابل تصور ہے، ناقابل یقین ہے۔ إمکانیة جمع إمکانیات: ممکن (بات)۔ امکان احتمال، امکانی صورت پوشیدہ طاقت۔ من الممکن أن: ممکن ہے کہ، حسب امکان، حتی الامکان۔ شاید۔ مُمْکِنَات: امکانات۔ مُتَمَکِّن فی جلستهِ: مضبوطی سے جما ہوا۔ مَکِنَہ و ماکِینہ جمع ماکینات و مکائن: مشین۔ مَکَنِی: مکینیکل۔

مکو: ۱۔ مَکَا یَمْکُو مُکَاءً و مُکُوًّا: منہ سے سیٹی بجانا۔ المَکَّاء جمع مَکَاکِیّ (ح): سیٹی بجانے والا ایک پرندہ۔ المَکُوَة: سرین، چوتڑ۔

۲۔ مَکِیَ یَمْکَی مَکًا تْ یدُہُ: کام کی زیادتی سے کے ہاتھوں میں چھالے پڑنا۔ تَمَکَّی تَمَکِّیًا الفرسُ: گھوڑے کا پسینہ سے بھیگنا۔

۳۔ المَکَی و المَکُو جمع أمْکَاء: خرگوش وغیرہ کا بل (بھٹ)۔

مل: ۱۔ مَلَّ ـ مَلاًّ علیه السفرُ: پر یا کیلئے سفر دراز ہونا۔ ـ مَلَلاً و مَلاَلاً و مَلَّةً و مَلاَلَة الشیءَ و من الشیءِ: سے اکتانا، زچ ہونا۔ أَمَلَّ علیه السفرُ: کیلئے یا پر سفر دراز ہونا ـــ ہُ بالامر و أَمَلَّ علیه الامرُ: پر کام کا گراں گزرنا اور باعث ملال و بے چینی ہونا ـــ ہُ الشیءَ: کو سے اکتانے اور زچ ہونے دینا۔ اِسْتَمَلَّ الشیءَ: سے اکتانا، تنگ آنا۔ المَلّ (مص): رجُلٌ مَلٌّ: اکتایا ہوا۔ المَلَّة: اسم مرۃ، اکتاہٹ سے تنگ آنا۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ مَلَّة: جلد اکتانے والا آدمی۔ المَلَل و المَلاَل: اکتاہٹ، بیقراری۔ المَالُولَة و المَلاَّلَة و المَلُول و المَلُولَة: مذکر و مؤنث دونوں کیلئے، اکتایا ہوا، بے قرار، تاء مبالغہ کی ہے۔ الشیءُ المَمْلُول: باعث ملال (اکتاہٹ) چیز۔

۲۔ مَلَّ ـ مَلاًّ الشیءَ فی الجمر: چیز کو انگاروں پر رکھنا، رکھنے والا۔ مَلاَّل اور رکھی ہوئی چیز۔ مَمْلُول و مَلِیل ـــ السهمَ بالنار: تیر کو آگ سے سیدھا کرنا ـــ اللحمَ فی الجمر: گوشت یا روٹی کو بھوبھل میں رکھنا ـــ بہ ملالٌ: کو ملال لاحق ہونا۔ غم یا بیماری سے تڑپنا ـــ الشیءَ: کو الٹ پلٹ کرنا ـــ المحمومُ: بخار والے کا بیکل ہونا۔ مَلَّلَ تَمْلِیلاً الشیءَ: کو الٹ پلٹ کرنا۔ تَمَلَّلَ: غم یا بیماری سے تڑپنا ـــ اللحمُ علی النار: گوشت کا آگ پر چلبلانا ـــ مِلَّةَ کذا: کوئی مذہب اختیار کرنا۔ اِمْتَلَّ الخُبزَة: بھوبھل میں روٹی پکانا ـــ مِلَّةَ کذا: کوئی مذہب اختیار کرنا۔ المَلَّة: چنگاری، بھوبھل، بخار کا پسینہ۔ خُبزُ المَلَّة: بھوبھل میں پکائی ہوئی روٹی۔ المِلَّة جمع مِلَل: مذہب، اعتقاد۔ المُلّی: بھوبھل میں پکائی ہوئی روٹی۔ المُلاَل: غم یا بیماری سے تڑپنا، کمر درد، پیٹھ کا درد، ہڈی کے اندر کی گرمی، بخار کا پسینہ۔ المَلِیل: بھوبھل میں بھونا ہوا۔ کریلنی ـــ من الطُرُق: بہت زیادہ آمد و رفت والا راستہ۔ رجُلٌ مَلِیل: جسے دھوپ نے جھلسا دیا ہو۔ المَلِیلَة: اندرونی بخار، پیاس کی شدت۔ المُمَلّ من الطرق: بہت آمد و رفت والی سڑک۔ المَمْلُول: بھوبھل میں بھونا ہوا۔

۳۔ مَلَّ ـ مَلاًّ فی الشیء: چلنے میں جلدی کرنا۔ تَمَلَّلَ فی المشیء: چلنے میں جلدی کرنا۔ اِمْتَلَّ فی المشیء: چلنے میں جلدی کرنا۔ اِنْمَلَّ: مدقوق ہونا۔

۴۔ مَلَّ ـ مَلاًّ الثوبَ: کپڑے پر لنگر کرنا، کپڑے کو کچا کرنا۔ المُلَّة جمع مُلَلٌ: لنگر، کچی سلائی، ٹانکا۔

۵۔ أَمَلَّ إِمْلاَلاً و أَمْلَی إِمْلاءً الکتاب علی الکاتب: کو کچھ لکھوانا، املا کرانا۔

۶۔ المِلَّة جمع مِلَل: خون بہا۔ المُلاَل: کمان کی پشت، تلوار کے قبضہ کی لکڑی۔ المَلُّول واحد مَلُّوله (ن): بلوط درخت کی ایک قسم۔

۷۔ مَلْمَلَ: جلدی کرنا۔ المَلْمَلَی: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے: ناقة مَلْمَلَی: تیز رفتار اونٹنی۔

۸۔ مَلْمَلَ ہُ المرضُ: بیماری نے اس کو بے قرار کردیا۔ تَمَلْمَلَ: بیماری یا غم سے بستر پر بے قرار ہونا، کروٹیں بدلنا ـــ الجالسُ: بیٹھنے والے کا کبھی ایک پہلو پر ٹیک لگانا اور کبھی دوسرے پر۔ المُلْمُول: سرمہ لگانے کی سلائی۔

۹۔ المَلْملة: ہاتھی کی سونڈ۔ المُلْمُول: ناک کا نتھنا۔

○ مَلَّ ـ مَلَلاً و مَلاَلاً و مَلاَلَة: تھکا ہوا ہونا، یا ہو جانا، تھکا ماندہ ہونا یا ہو جانا، اکتانا، بیزار ہونا، بیتاب ہونا ـــ ہ: سے تھک جانا، اکتا جانا، سے بیزار ہونا۔ لا یَمَل: انتھک۔ أَمَلَّ: تھکا دینے والا ہونا، اکتا دینے والا ہونا، چور کرنے والا ہونا، پریشان کن ہونا، تکلیف دہ ہونا ـــ ہ/علی: کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، دق

کرنا، برہم کرنا، کوغصہ دلانا، برافروختہ کرنا۔ ــــــہ علی: کچھ کسی کو املا کرانا، کچھ کسی سے لکھوانا۔تَمَلَّلَ: تھک جانا، اکتا جانا، بیزار ہو جانا، بور ہو جانا، بے قرار ہونا، چلبلا ہونا۔ ــــــمِلَّۃً: کوئی مذہب اختیار کرنا۔ اِمْتَلَّ مِلَّۃً: کوئی مذہب اختیار کرنا۔مَلِلٌ: تھکا ہوا، تھکا ماندہ، اکتایا ہوا، بیزار۔ ــــــمِلَّۃ: مذہبی جماعت، مذہب، اعتقاد، عقیدہ، ایمان، اعتراف، فرقہ، گروہ۔ مَلَّۃ: بھوبھل، جلتے انگارے۔مِلِّی: مذہبی فرقہ کا یا گروہی۔مجلس مِلِّی (مصر میں) مذہبی اقلیت کی عدالت انصاف (جو 1956 سے ختم کردی گئی)۔مُلَّۃ جمع مُلَل: کچا بخیہ، لمبا ٹانکا، نگندا، سپرنگ دار پلنگ (spring mattress)۔مَلَلٌ و مَلَال: تھکاوٹ، بوریت، اکتاہٹ، برہمی، جھنجھلاہٹ، جھلاہٹ، ہیجان، پریشانی۔ ــــــ: غیر صحت مندانہ، گڑبڑ، بے چینی، بے تابی، بے قراری، چلبلا پن، چلبلاہٹ، بے کلی (بخار کی وجہ سے)۔مَلَالَۃ: تھکاوٹ، بوریت، بے قراری، بے تابی، اکتاہٹ، بے کیفی، بے لطفی۔ مَلُول: تھکا ہوا، تھکا ماندہ، بور، تھکا دینے والا، اکتایا ہوا، بیزار، برگشتہ۔مُلَّی: بھوبھل میں پکائی ہوئی روٹی۔مُمِل: تھکا دینے والا، اکتا دینے والا، اجیرن، ناگوار، بیزار کن، تکلیف دہ، گراں، مکروہ، کریہ، گھناؤنا، ناپسندیدہ، پریشان کن۔مِل جمع مِلَّات: فلسطین اور اردن کی سب سے چھوٹی نقدی وحدت فلسطینی پونڈ کا 1/1000۔

ملأ: امَلَأَ۔مَلْأً و مَلْأَۃً و مِلْأَۃً: کو بھرنا...... الاناءَ ماءً و بالماء و من الماء: برتن کو پانی سے پورا بھرنا۔صفت مفعولی مَمْلُوء: کہا جاتا ہے: نظرتُ الیہ فملأتُ منہ عینی: میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے اچھا لگا۔ملأ علیہ الارضَ: اس نے اس پر زمین تنگ کردی۔مَلِیءَ۔مَلْأً: بھر جانا صفت مَلْآن: (بھرا ہوا)۔مَلُؤَ۔مَلَاءً و مَلَاءَۃً: بھرا ہوا ہو جانا۔ ــــــ و مُلِیءَ مَلَاءَۃً: کوز کام ہو جانا۔مَلَّأَ تَمْلِئَۃً: کو خوب بھرنا۔ ــــــ فی قوسہ: کمان کو زور سے کھینچنا۔اَمْلَأَہٗ: کوز کام لگا دینا۔صفت مَلْآن۔ ــــــ فی النزع: کمان کو زور سے کھینچنا۔ تَمَلَّأَ: بھر جانا۔ ــــــت المرأۃُ: عورت کا چادر اوڑھنا۔اِمْتَلَأَ من الطعام والشراب و غیرھما: کھانے اور مشروب سے پر ہو جانا۔اِسْتَمْلَأَ فی دَیْنِہ: معتبر دولتمند مقروضوں والا ہونا۔المَالِیء فا: کہا جاتا ہے: رَجُلٌ مَالِیءٌ: بڑا آدمی۔شابٌ مالیءُ العین: خوبصورت اور شاندار جوان۔المِلْءُ جمع اَمْلَاء: وہ مقدار جس سے برتن بھر جائے۔ کہا جاتا ہے: انہ ینام مِلْءَ جفنہ: وہ بے فکر ہو کر سوتا ہے۔ فلانٌ مِلْءُ کسائہ: فلاں موٹا ہے۔المَلَأ جمع اَمْلَاء: اشراف قوم، لالچ، گمان۔ کہا جاتا ہے: ما اَحْسَنَ مَلَأَ بنی فلان: فلاں قبیلہ والوں کے اخلاق اور رشتے دار کتنے اچھے ہیں۔المَلَأُ الأعلٰی: عالم ارواح۔المُلَاءُ و المُلَّاۃ: زکام۔المِلَّاۃ (مٹی): بھرنے کا طریقہ، پرخوری۔المُلَاءَۃ: زکام۔جمع مُلَاء: چادر، تہ بند۔المَلْآن م مَلْأَی و مَلْآنَۃ جمع مِلَاء: بھرا ہوا، زکام میں مبتلا۔المَلِیْءُ و المَلِیُّ جمع مِلَاء و اَمْلِیَاء و مُلَآء: غنی، قرض ادا کرنے کے قابل۔ کہا جاتا ہے: ھو اَمْلَأُ القوم: وہ قوم میں سب سے زیادہ اختیار کا مالک اور مال دار ہے۔فلانٌ اَمْلَأُ لعینی من فلان: وہ فلاں سے زیادہ خوبصورت اور خوش شکل و صورت ہے۔

۲۔مَلَأَ۔مَلْأً و مَلَاءَۃً و مِلَاءَۃً علی الامر: کسی کام میں مدد کرنا۔مَالَأَ مُمَالَأَۃً و مِلَاءً علی الامر: کسی کام میں مدد کرنا۔تَمَالَأَ القومُ علی الامر: لوگوں کا اکٹھا ہو کر کسی کام میں تعاون کرنا۔المَلَأُ جمع اَمْلَاء: قوم کی جماعت۔ آپس میں مشورہ۔ کہا جاتا ہے: ما کان ھذا الامر عن مَلَإٍ منّا: یہ کام ہمارے اجتماع و مشورہ کے بغیر ہوا۔

(ج) مَلَأَ۔مَلْأً و مَلَأَۃً و مِلْأَۃً ہ من/ب: کو سے بھرنا۔ ــــــہ: فارم یا خالی جگہ پر کرنا۔ ــــــہ: کو بھرنا، گھیرنا، خالی اسامی پر کرنا۔مَلَأَ الدھرَ: اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔مَلَأَ الساعۃ: گھڑی یا گھنٹہ کو چابی دینا۔ملأ شِدْقَیہ بالھواء: اپنے رخسار پھلانا۔مَلَأ العینَ: آنکھ کو خوش کرنا، کے لئے تسلی بخش ہونا۔ملأ الفضاءَ بالشکوی: فضاء کو شکایات سے بھر دینا۔ملأ فاہ ب: کے بارے میں بڑی باتیں کرنا، کے متعلق منہ کھولنا۔مَلِیءَ: بھرنا، بھر جانا۔مَالَأَہ علی: میں کی مدد کرنا، تائید کرنا، حمایت کرنا۔ ــــــہ: کی طرف داری کرنا۔ ــــــہ علی: کے خلاف کسی سے متحد ہونا۔ اَمْلَأَ ہ: کو بھرنا (نیز خالی آسامی) کو پر کرنا۔تَمَلَّأَ: بھرنا، بھر جانا۔ ــــــہ/من: سے بھر جانا، سے پر ہو جانا۔اِمْتَلَأَ: بھرنا، پر ہو جانا۔ ــــــہ/من/ب: سے بھر جانا، سے پر ہونا۔ ــــــہ: کو بھرنا۔ ــــــہ ہ: کے دل میں ڈالنا (احساس وغیرہ)۔مَلْءٌ: بھرنا (خالی جگہوں کو) بھرنا۔مِلْءٌ جمع اَمْلَاء: بھرنا، مقدار جو کسی چیز کو بھر دے، جتنے کی گنجائش ہو، مقدار جو کسی چیز میں آ سکے۔مَلْءُ اِھَابِہ الکبریاءُ: وہ سرتا پا تکبر و خود پسندی ہے۔مِلْءَ بطنہ: پیٹ بھر۔مِلْءُ قدحٍ: پیالہ بھر۔مِلْءُ الید: مٹھی بھر۔مِلْءُ کسائہ: تخیم شحیم۔مِلْءُ فیہ: یقین کامل سے۔مِلْءُ الفم: بلند آواز سے۔ضَحِکَ بملْءِ (ملءَ) شِدْقَیہ: کھیس نکالنا۔قال بصوتٍ مِلْؤُہ الشفقۃُ: اس نے رحم بھری آواز میں کہا۔لِی مِلْءُ الحریۃ فی: مجھے ایسا کرنے کی کامل آزادی ہے۔موقف موقفا مِلْؤُہ الحزم: اس نے عزم مصمم سے پر موقف اختیار کیا۔انت ملءُ حیاتی: تم میری پوری زندگی ہو۔ینام مِلْءَ جَفْنَیْہِ: وہ گہری نیند سوتا ہے۔مَلَأ جمع اَمْلَاء: بھیڑ، اجتماع، اسمبلی، جماعت، حاضرین، سامعین، عام پبلک، عوام، بڑوں، ممتاز لوگوں یا بڑی شخصیات کی کونسل۔علی الملأ: کھلم کھلا، علی الاعلان۔علی ملأ العالم: ساری دنیا کے سامنے، سب کے سامنے۔الملأ الاعلی: فرشتے، مقدس میزبان، آسمانی میزبان۔مُلَاءَۃ۔مِلَایَۃ جمع مُلَاءَات: چادر، شال، کھیس وغیرہ۔ بستر کی چادر۔مملیء البدن و مُمْتَلِئ الجسم: جسیم، تخیم شحیم، موٹا، فربہ۔مُمَالِیء: طرف دار، جانبدار، متعصب، ہمکار (collaborator)

ملت: مَلَتَ۔مَلْتًا ہ: کو ہلانا۔

ملث: مَلَثَ۔مَلْثًا ہ: کو جھوٹے دعوے سے تسکین دینا، کو تھوڑا مارنا۔ ــــــ الظلامُ: اندھیرے کا گڈمڈ ہونا۔ ــــــہ بالشر: کو بدی سے لتھیڑنا۔مَالَثَ مِلَاثًا و مُمَالَثَۃً ہ: سے کھیلنا، کی مداہنت کرنا، خوشامد کرنا۔ مَلْثُ اللیلِ و مَلَثُہ: رات کی پہلی تاریکی، شام کا اندھیرا، دھندلا پن۔

(ج) مَلَارِیا: ملیریا (بخار)۔مَلَایو و جزرُ الملاریعہ الملایو: ملایا، ملایا کے جزیرے۔

ملج: امَلَجَ۔و مَلِجَ۔مَلْجًا الصبیُّ اُمَّہٗ: بچہ کا اپنی ماں کے پستان کو منہ میں لے کر دودھ پینا۔اَمْلَجَ ہ: کو دودھ پلانا۔اِمْتَلَجَ ما فی الثدی: تھن یا پستان کا سارا دودھ چوسنا۔المُلُج: دودھ پینے والے میمنے، بکری کے چھوٹے بچے۔المَلِج: دودھ شریک بھائی۔

۲۔المَالَج جمع مَوَالِج: معمار کا لپائی کرنے کا آلہ، کرنی۔ المُلُج جمع اَمْلَاج: گوگل کی گٹھلیاں۔المَلِیج: ناموریا عالی مرتبہ شخص۔الأَمْلَج: بنجر، ریگستان، آملہ۔ الأُمْلُوج جمع اَمَالِیج: نرم شاخ، درخت کی جڑ جو نرم کرنے کے لئے گیلی مٹی میں دبائی جاتی ہے، ایک جنگلی درخت، سرو کی طرح کے پتے۔

(ج) مَلَجَ۔مَلْجًا ہ: (ماں کا پستان) چوسنا۔اِمْتَلَجَ: چوسنا۔مَالَج جمع مَوَالِج: کرنی۔

ملح: ۱۔مَلَحَ -مَلْحًا الطعامَ: کھانے میں نمک ڈالنا۔ ــــ الماشیةَ: مویشی کوتونی کھلانا۔ــــ الطائرُ: پرندے کا بہت پر پھڑ پھڑانا۔کہا جاتا ہے:مَلَحَ اللّٰه فیــہ: اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے۔ ۔و مَلُحَ -مُلُوحَةً و مَلاحَةً و مُلُوحًا الماءُ: پانی کا کھاری ہونا۔صفت مَلِیح و مَالِح: موخرالذکر کا استعمال کم ہے۔مَلِحَ -مَلَحًا: نیلگوں رنگ کا ہونا، کے نیلے رنگ کا زیادہ ہونا۔مَلَّحَ الشیءَ: چیز کونمکین کرنا، پرنمک ڈالنا۔ــــ الطعامَ: کھانے میں نمک زائد کرنا۔ــــ السمكَ و نحوَہ: مچھلی وغیرہ پرنمک لگانا۔ــــ الدابّةَ: جانور کے جبڑے پرنمک کی مالش کرنا۔ــــ الماشیةَ: مویشی کوتونی کھلانا۔مَالَحَ مَلاحًا و مُمَالَحَةً ہٗ: کے ساتھ کھانا۔کہا جاتا ہے: هو یحفظ حرمة الممانحة: وہ ساتھ کھانے کے تقدس کا خیال رکھتا ہے۔ــــ فُلانًا: کا دودھ شریک ہونا۔أَمْلَحَ الماءُ: پانی کا میٹھا ہونے کے بعد کھاری ہو جانا۔ــــ الشیءُ: چیز کا نیلگوں رنگ کا ہونا۔ــــ الطعامَ: کھانے میں نمک زائد کرنا۔ــــ ت الإبلُ: اونٹوں کا کھاری پانی پر آنا۔ ــــ الراعی الابلَ: چرواہے کا اونٹوں کو کھاری پانی پلانا۔تَمَلَّحَ الرجُلُ: نمک توشہ میں لینا،نمک کی تجارت کرنا۔ــــ البعیرُ: اونٹ کا فربہ ہونا۔اِمْلَحَّ الکبشُ: مینڈھے کا سیاہ و سفید ہونا۔المِلَحُ جمع مِلاح۔ تصغیر مُلَیْحة (ك): نمک (مذکر ومونث) ــــ جمع مِلْحٌ و مِلْحَة و مِلاح و اَملاح: موٹاپا، چربی، رضاعت، حرمت، معاہدہ۔کہا جاتا ہے:بینهما مِلْحٌ: دونوں کے درمیان معاہدہ ہے۔فلانٌ مِلحُهُ علی رکبتیه: وہ بے وفا ہے یا وہ بہت جھگڑوں والا ہے،مولدین کے نزدیک۔ مِلحُہ علی ذیله کا معنی ہے وہ ناشکرا ہے،احسان ناشناس ہے۔ماءٌ مِلْحٌ: کھارا پانی،اسے کبھی مالح بھی کہتے ہیں۔المَلَح: سیاہی مائل سفیدی۔بہت نیلاہٹ،نیلگوئی۔المُلْحَة: سیاہی مائل سفید،سخت، نیلگون،برکت۔المِلْحَة: کھاری (کہا جاتا ہے بئرٌ مِلْحَةٌ: کھاری کنواں) حرمت،معاہدہ۔کہا جاتا ہے بینهما مِلْحَة: ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہے۔المَلْحَة: اسم مرة،سمندر کی گہرائی۔المِلاح: کشتی یا جہاز چلانے والی ہوا، تیزے کا پھل۔ المَلاحَة: نمکین ہونا۔المِلاحة: ملاحی،جہازرانی، سمندروں، دریاؤں اور فضاء میں سفر کا فن۔کہا جاتا ہے مِلاحةٌ نهریةٌ و ملاحةٌ جوّیة: دریائی جہاز رانی،فضائی جہاز رانی۔المَلّاح: نمک کا سوداگر یا مالک،ملاح،کشتی بان ــــ عند العامة: رات کو پڑنے والا پالا۔مَلّاحُو الجوّ: ہواباز،طیارچی۔ المُلّاح واحد مُلّاحة (ن): ایک نبات۔المَلّاحَة: نمک کی کان،وہ جگہ جہاں نمک فروخت کیا جاتا ہے۔ المُلاحِیّ و المُلّاحِیّ: سفید لمبے انگور،ایک قسم کا انجیر۔المُلاحِیَة: جہازرانی کا پیشہ۔المُلُوحَة (مص): نمکینی۔المَلِیح من الماء: کھارا پانی۔ سمكٌ مَلِیح: نمک لگا کر خشک کی ہوئی مچھلی۔ اَبُو مُلَیح (ط): ایک قسم کا کھانا۔عوام اسے فتّوش کہتے ہیں۔الأَمْلَح: شبنم۔ــــ جمع مُلْح: سیاہ وسفید رنگ والا۔کبش أَمْلَح: سیاہ مینڈھا جس کے بالوں پرسفیدی ہو۔المَلْحاء جمع مَلْحاوات: أَملح کا مؤنث۔ سیاہ و سفید رنگ والی، بڑی پلٹن۔ المَمْلَحة: نمک کی کان۔المِمْلَحة: نمک دان۔ المُتَمَلِّح: نمک کا تاجر یا مالک۔

۲۔مَلَحَ -مَلْحًا الرجُلَ: کی غیبت کرنا۔

۳۔مَلُحَ -مَلاحَةً و مُلُوحَةً: خوبصورت ہونا صفت۔ مَلِیح و مُلاحٌ و مُلّاحٌ۔ مَلَّحَ و أَمْلَحَ المتکلِّمُ: عمدہ کلام کرنا۔تَمَلَّحَ: کہا جاتا ہے: فلانٌ یتظرّف و یتملّح: فلاں شخص زندہ دلی ظاہر کرتا ہے اور بذلہ سنج بنتا ہے۔اِسْتَمْلَحَ الشیءَ: کو عمدہ پانا یا سمجھنا،تعجب سے کہا جاتا ہے مَا أَمْلَحَهُ و مَا أُمَیْلِحَهُ: وہ کتنا خوبصورت ہے،اچھا ہے۔المَلْح: عمدہ باتیں۔المِلْح جمع مِلَح و مِلْحَة و مِلاح و اَملاح: خوبصورتی،علم،علماء۔المُلْحَة: عظمت۔ مُلَح کا واحد،مزے دار اور عمدہ بات۔المُلَحَة: خوبصورت بات۔المُلاح جمع مُلاحون: خوبصورت۔ المَلاحة: خوبصورتی۔رجُلٌ مُلاح جمع مُلّاحون: ظریف،خوبصورت آدمی۔المَلِیح م مَلِیحَة جمع مِلاح و اَملاح: خوبصورت،ظریف خوش مزاج۔ الأَمْلَح جمع مُلْح: اسم تفضیل۔الأُمْلُوحة من الکلام جمع أَمَالِیح: اچھا عمدہ کلام۔

۴۔اِمْتَلَحَ: جھوٹ سچ ملانا۔اِمْلاحَّ النخلَ: کی کچی کھجور کا سرخ و زرد ہونا۔

۵۔المِلاح: برقعہ،تھیلا۔المَلْحاء جمع مَلْحاوات: درخت جس کے پتے گر گئے ہوں۔

○ مَلَحَ -و مَلُحَ -مُلُوحًا و مُلُوحَةً و مَلاحَةً: نمک،نمکین یا کھاری ہونا یا ہو جانا۔

مَلُحَ -مَلاحَةً و مُلُوحَةً: خوبصورت ہونا،خوبرو ہونا، حسین ہونا،شکیل ہونا،عمدہ ہونا،نفیس ہونا۔مَلَّحَ ہٗ: میں نمک ڈالنا، پرنمک لگانا،نمک چھڑکنا،کو نمک لگا کر خشک کرنا،کو نمک لگا کر محفوظ کرنا،کو نمک لگا کر سکھانا۔ أَمْلَحَ: نمک یا نمکین یا کھاری ہونا۔اِسْتَمْلَحَ ہٗ: کو خوبصورت، حسین عمدہ یا پرلطف یا ظرافت بھرا پانا۔ مِلْح (مذکر ومونث) جمع اَملاح و مِلاح: نمک، بارود (gun powder)،پھبتی،لطیفہ، حاضر جوابی، ذہانت،ذہن،بذلہ سنجی،عقل،سمجھ،زندہ دلی۔مِلح انکلیزی: کڑوا نمک،معدنی نمک (epsum salt)۔مِلح البارُود: شورہ،قلمی شورہ (saltpetre)،بارود(gunpowder)۔مِلحُ النشادر: نشادر کی گیس،امونیا گیس۔املاح معْدَنیة: معدنی نمک۔مِلحی: نمک،نمکین کھاری، شورہ دار۔مِلْحَة: معاہدہ،عہد وپیمان، پابندی،قول و قرار۔مُلْحَة جمع مُلَح: پرلطف کہانی،بے ربط قصہ، پھبتی،لطیفہ۔مَلّاح: ملاح، جہاز ران، ماہر جہاز ران، مراکشی شہروں کا اقلیتی باشندہ۔مَلاحَة: خوبصورتی، حسن، جمال، دلکشی، خوش وضعی، مہربانی، شفقت، دوستانہ سلوک، دل آویزی، نمکینی، کھاری پن۔مَلّاحة جمع مَلّاحات: کھاری چشمہ،نمک بنانے کا گڑھا یا کارخانہ یا نمک بنانے کی جگہ،نمک کی کان، نمک بنانے کا تہ خانہ۔مِلاحَة: جہاز رانی، جہاز پر سامان کی لدائی۔مِلاحة تجاریة: بحری جہازوں کے ذریعے سامان کی نقل وحمل۔مِلاحَة جویة: ہوا بازی۔ملاحة داخلیة: اندرون ملک جہاز رانی۔ ملاحة نهریة: دریاؤں کے ذریعہ آمدورفت۔ صالح للملاحة: جہازرانی کے قابل۔مِلاحِی: جہازرانی سے متعلق سمندری، بحری۔مُلُوحة: نمکینی، کھاری پن،نمک جیسا ذائقہ۔مَلِیح جمع مِلاح و اَملاح: نمکین،کھاری،نمک ڈالا ہوا،خوبصورت، حسین،جمیل،خوبرو،شکیل،عمدہ،خوشگوار،خوش اطوار، مہربان،بذلہ سنج،پرلطف،ظرافت بھرا۔اُملُوحة جمع اَمالیح: مذاق،ہنسی،لطیفہ،قصہ،حکایت۔مَمْلَحة جمع مَمَالح: نمک بنانے کا گڑھا،کارخانہ یا نمک بنانے کی جگہ، کھاری چشمہ، نمک بنانے کا تہ خانہ۔ مَوَالِح (مالِحة کی جمع): ترش پھل،گری دار پھل، مونگ پھلی، بادام وغیرہ جن میں نمک ملایا گیا ہو۔ مَمْلُوح: نمک ڈالا ہوا،نمکین،کھاری۔مُمَلَّح: نمک ڈالا ہوا۔مُسْتَمْلَح: ذہین تیز طبع روشن، چمکدار، ہوشیار،دلچسپ۔

ملخ: ۱۔مَلَخَ -مَلْخًا الشیءَ: ہاتھ یا دانت سے پکڑ کر کھینچنا۔تَمَلَّخَ الشیءَ: کو نکالنا۔اِمتلخ الشیءَ: کو اکھیڑنا، کھینچنا، اتارنا، نکالنا۔ــــ یدہُ من القابض

علیه: پکڑنے والے سے اپنا ہاتھ کھینچ لینا۔ـــ السیفَ: جلدی سے تلوار سونت لینا۔ کہا جاتا ہے: مرّ برمح مركوز فامتلخه: وہ زمین میں گڑے ہوئے نیزے کے قریب سے گزرا تو اسے زمین سے باہر نکال لیا۔ المَلِیخ: کمزور، ضعیف۔

۲۔مَلَخَ ـَ مَلْخًا الفرسُ: گھوڑے کا کھیلیں کرنا۔ـــ فی الباطل: فضول کام میں مشغول ہونا۔ـــ مالَخَ ملاخا و ممالخة: آپس میں کھیلنا، چاپلوسی اور خوشامد کرنا۔ المَلّاخ: بڑا چاپلوس بڑا خوشامدی۔

۳۔مَلَخَ ـَ مَلْخًا الطعامُ: کھانے کا خراب ہونا۔ مَلُخَ ـُ مَلاخةً الطعامُ: کھانے کا خراب ہونا۔ تَمَلَّخَ الشیءُ: چیز کا بگڑ جانا، خراب ہوجانا۔ المَلِیخ: خراب کھانا وغیرہ، بے مزہ (چیز)۔ مُمْتَلَخُ العقل: پاگل، عقل سے محروم۔

۴۔مَلَخَ ـَ مَلْخًا الرجلُ: تیز چلنا، بھاگ جانا۔ عبدٌ مَلّاخ: بہت بھاگنے والا غلام۔

۵۔المُلُوخِیّة (ن): ایک قسم کی نباتات۔

۞ مَلَخَ ـَ مَلْخًا ہ: کو باہر نکالنا، کھینچنا، کو پھاڑ لینا، (جوڑ) کو زور کا جھٹکا دینا، مروڑ دینا، جوڑ الگ کر دینا، اکھاڑنا، اتار دینا۔ اِمْتَلَخَ ہ: کو باہر نکالنا، کھینچنا، کا عطر نکالنا۔ مَلِیخ: بے لطف، بے مزہ، بے ذائقہ، پھیکا، بے لذت، روکھا پھیکا، بے نمک۔ مُلُوخِیّة: ایک جڑی بوٹی، اس کا گاڑھا شوربہ یا یخنی۔

ملد: مَلَدَ ـِ مَلْدًا الشیءَ: کو کھینچنا۔ مَلِدَ ـَ مَلَدًا الغصنُ: ٹہنی کا ہلنا، نرم ہونا۔ مَلَّدَ الادیمَ: کھال (جلد) کو نرم کرنا۔ ...الریُّ الغصنَ: بارش یا آبپاشی کا ٹہنی کو نرم کرنا۔ المَلَد جمع أملاد: جوانی، نرمی، نزاکت۔ المَلَدان: ٹہنی کا ہلنا اور نرم ہونا۔ الأَمْلَد و الأُمْلُد و الأُمْلود و الإمْلِید و الأُمْلُدان و الأُمْلُدانی: نرم و نازک انسان یا ٹہنی۔ کہا جاتا ہے: شابٌ أُملودٌ و شبانٌ أمالید: نرم و نازک نوجوان (واحد و جمع)۔ المَلْداء جمع مُلْد: الأملد کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے: إمرأة مَلْداء و أُملودٌ و أُملودة و أُملدانیّة: نرم و نازک عورت۔

۞ مَلِدَ ـَ مَلَدًا: نرم و نازک ہونا (خصوصاً ٹہنی کا)۔ أمالید: نرم و نازک ٹہنیاں، شاخیں۔ أملد م مَلْداء: نرم و نازک، لچکدار۔

ملذ: ۱۔مَلَذَ ـُ مَلْذًا فلانًا: کو نیزہ مارنا۔ـــ الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔

۲۔مَلَذَ ـُ مَلْذًا الرجلُ: جھوٹا ہونا، جھوٹ بولنا۔ مَلْذًا و مَلاذةً الرجلَ: کو صرف اچھی باتوں سے خوش کرنا اور کر کے نہ دکھانا۔ـــ سے زبانی جمع خرچ کرنا۔ مَلِذَ ـَ مَلَذًا الظلامُ: اندھیرا گھُپ ہونا۔ـــ الرجلُ: منافقانہ طرز والا ہونا۔ الأمْلَذ و المَلَذان و المَلَذانیّ و المَلاذیّ و الملاذ و المِلْوَذ: منافق، جھوٹا آدمی۔

ملز: ۱۔مَلَزَ ـُ مَلْزًا: پیچھے رہنا۔ اِمَّلَزَ عنه: سے پیچھے رہنا۔

۲۔مَلَزَ ـُ مَلْزًا بالشیءِ: کو لے جانا۔ مَلَّزَہ عنه: کو ـــ سے چھڑانا۔ـــ الشیءُ عنّی: چیز کا مجھ سے جاتا رہنا۔ أمْلَزَ و اِمْتَلَزَہ: کو اچک لینا، چھین لینا، لیجانا۔ تَمَلَّزَہ: کو چھین لینا، اچک لینا، لیجانا۔ـــ منه: سے چھٹکارا پانا۔ اِنْمَلَزَ و اِمَّلَزَ منه: سے بچ نکلنا، خلاصی پانا۔ المِلْوَز من الرجال: مضبوط، گٹھا ہوا آدمی۔ المَلّاز: بہت اچکنے والا۔ (ح): بھیڑیا۔

ملس: ۱۔مَلَسَ ـُ مَلْسًا الشیءَ: کو جڑ سے اکھیڑ کر نکالنا۔ـــ الرجلَ بلسانه: سے چاپلوسی کرنا، کی خوشامد کرنا۔ـــ الإبلَ: اونٹوں کو تیز ہانکنا۔ مَلِسَ ـَ و مَلُسَ ـُ مُلُوسةً و مُلاسةً: ملائم اور چکنا ہونا صفت أملس۔ مَلَّسَہ من الامر: کو کسی کام یا بات سے چھڑانا۔ـــ الشیءَ: کو ملائم اور چکنا کرنا۔ـــ الارضَ: زمین کو ہموار کرنا۔ أملَسَتِ الشاةُ: بکری کی اون کا جھڑ جانا۔ تَمَلَّسَ: نرم و چکنا ہونا۔ـــ من بین القوم: لوگوں میں سے نکل جانا۔ـــ من الشراب: نشہ سے ہوش میں آنا۔ـــ من الامر: سے نکل جانا، بچ نکلنا، سے چھٹکارا پانا۔ اِمْتَلَسَ الشیءَ: کو اچک لینا۔ أُمْتُلِسَ بصرُہ: نگاہ جاتی رہنا۔ اِنْمَلَسَ و اِمَّلَسَ من الامر: معاملہ وغیرہ سے بچ نکلنا، خلاصی پانا۔ اِمْلاسَّ: نرم و چکنا ہونا۔ـــ من الامر: معاملہ سے خلاصی و رہائی پانا۔ المَلَس جمع مُلُوس و أملاس و جمع أمالیس: ہموار جگہ۔ المَلَسَی: بہت تیز رفتار اونٹنی۔ کہا جاتا ہے: بایعَہ المَلَسَی: اس نے اس سے ایسا معاہدہ کیا جس سے ذمہ داری کا کوئی تعلق نہیں۔ المِلاسة و المِمْلَسة: زمین برابر کرنے کی لکڑی، کھانچے دار سراون۔ الأمْلَس م مَلْساء: نرم، چکنا۔ المَلْساء: آسانی سے نگلی جاسکنے والی شراب۔ الألِفُ المَلْساء: نرم الف جیسے کتاب میں۔ سنة مَلْساء جمع أمالس و أمالیس: خشک سال۔ المَلِیس: نرم، چکنا۔ الإمْلِیس و الإمْلِیسة جمع أمالیس و أمالس (شاذ): ریگستان، بے برگ گیاہ میدان۔

۲۔مَلَسَ ـُ مَلْسًا و مُلِسَ الظلامُ: گھانوپ اندھیرا ہونا۔ مَلْسُ الظلام: بہت اندھیرا جو مغرب اور عشاء کے درمیان ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: جاءنی مَلْسَ الظلام: وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اندھیرے کے وقت میرے پاس آیا، نصب ظرفیت کی وجہ سے ہے۔ المُلَیْساء: مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت، نصف النہار۔

۞ مَلِسَ ـَ و مَلُسَ ـُ مَلاسةً و مُلُوسةً: ہموار ہونا، برابر ہونا، مسطح ہونا، چکنا اور صاف ہونا۔ مَلَّسَ ہ: کو ہموار کرنا، برابر کرنا، مسطح کرنا، چکنا کرنا، صاف کرنا، کو پھسلنے والا بنانا۔ـــ علی: پر ہاتھ گزارنا، کو ہاتھ سے صاف کرنا، جھاڑنا، پر ہاتھ پھیرنا، کو تھپکنا، سہلانا، پچکارنا۔ تَمَلَّسَ: ہموار ہوجانا، چکنا اور صاف ہوجانا، پھسلنا، سرکنا، کھسکنا، ٹٹولنا، آنکھ بچا کر نکل جانا، بچ نکلنا، فرار ہوجانا۔ اِنْمَلَسَ و اِمَّلَسَ: ہموار ہونا، پھسلنا، سرکنا، کھسکنا، بچ نکلنا، فرار ہوجانا۔ مَلَس: باریک خارجی لباس، عورتوں کے لباسوں کے لئے ریشمی کپڑا۔ مَلِس: ہموار، چکنا، صاف، نرم، گدگدا۔ مَلاسة: روانی، ملائمت چکناپن۔ ہمواری۔ أمْلَس مونث مَلْساء جمع مُلْس: ہموار، چکنا، صاف، نرم، گدگدا۔

ملش: مَلَشَ ـُ مَلْشًا الشیءَ: کو ہاتھ سے ٹٹول کر ڈھونڈنا۔ـــ الریشَ: پر اکھیڑنا، نوچنا، کھینچنا، توڑنا (سریانی عوامی زبان)۔ المالُوش جمع مَوالِیش (ح): نباتات کی جڑوں کو کاٹنے والا کیڑا (عوامی زبان کا لفظ)۔

ملص: مَلَصَ ـُ مَلْصًا بسلحه: بیٹ کرنا، پاخانہ کرنا۔ مَلِصَ ـَ مَلَصًا الشیءُ من یدہ: چکناہٹ کی وجہ سے ہاتھ سے پھسل جانا۔ کہا جاتا ہے: مَلِصَتِ السمكة من یدی: مچھلی میرے ہاتھ سے پھسل کر نکل گئی۔ـــ الرجلُ: بھاگ جانا۔ أمْلَصَتِ الحامِلُ: حاملہ عورت کا حمل گرانا صفت مُمْلِص جمع مَمالِص۔ـــ الشیءَ: کو پھسلانا۔ تَمَلَّصَ و اِنْمَلَصَ و اِمَّلَصَ منه: سے بچ نکلنا، چھوٹ جانا، خلاصی پانا۔ـــ الشیءُ من یدی: چیز کا ہاتھ سے پھسل جانا۔ المُلُص: ننگا، عریاں۔ المَلَص (مص): پھسلنا۔ المَلِصُ من الحبال و نحوها: رسی وغیرہ جو پھسل جائے اور ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ سمكة مَلِصة: ہاتھ سے پھسل کر نکل جانے والی مچھلی۔ المَلِیص: پھسلنے اور ہاتھ سے نکل جانے والی چیز، اسقاط شدہ بچہ۔ الأمْلَص: تر و نرم۔ رجل أمْلَصُ الرأس: گنجے سر والا۔ المِمْلاص: وہ

عورت جس کو اسقاط کی عادت ہو۔المُمْلِص: اسقاط شدہ بچہ۔

○ مَلِصَ - مَلَصًا: پھسلنا، سرکنا، کھسکنا، چپکے سے نکل جانا، فرار ہو جانا۔۔۔۔۔من عن: سے چھٹکارا پانی، خلاصی پانا، سے آزاد ہونا۔ملِصَ من: سے آزاد ہونا، پہلو تہی کرنا، بچنا، سے جھکائی دیکر نکل جانا، بچنا، کو ٹال جانا، پی جانا۔ملِص: ہموار، چکنا، نرم، ملائم، پھسلنی، رپٹنی (رپٹنی سطح وغیرہ)۔مَلِيص: ہموار، نرم ملائم، چکنا، پھسلنی، رپٹنی (سطح وغیرہ)، اسقاط شدہ بچہ، پیدائشی مردہ بچہ۔تَمَلُّص: پھسلنا، فرار ہونا، فرار۔

ملط اسلط - مَلطًا الحائط: دیوار کو مٹی سے لیپنا۔ ۔۔۔الشعر: بال مونڈنا۔۔۔ت الحاملُ جنينها: حاملہ کا ادھورا بچہ گرانا۔۔۔ر مَلِطَ - مُلُوطًا الغلامُ: لڑکے کا مخلوط النسل ہونا۔مَلِطَ - مَلَطًا و مُلْطَةً: بے بال کے جسم والا ہونا۔مَلَّطَ الحائط: دیوار کو مٹی سے لیپنا۔مالَطَ مُمالَطَةً ہُ: سے خلط ملط ہونا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کا ہم صحبت ہونا۔أمْلَطَ ت الحاملُ جنينها: ناتمام بچہ گرانا (حاملہ کا)۔۔۔۔۔ريشَ السهمِ: تیر کے پروں کا گر جانا۔۔۔۔الرجلُ: محتاج ہونا، غریب و مفلس ہونا۔تَمَلَّطَ الشيءُ: ملائم ہونا۔۔۔۔السهم: تیر کا بے پر ہونا۔اِمْتَلَطَ الشيءَ: چیز کو اچک لینا، چھین لینا۔المِلْط جمع أملاط و مُلُوط: برا آدمی، بد دیانت، بے ایمان شخص، گمنام نسب والا۔ السِّلاط جمع مُلُط: لپائی کا گارا۔الأمْلَط: مُلُط: بے بال جسم والا۔۔۔۔السهمُ أملط: بے پر تیر۔ المَلِيط: جس کے جسم پر بال نہ ہوں۔رحم مادر کا بچہ جس کے جسم پر بال نہ ہوں۔سهمٌ مَلِيطٌ: بے پروں کا تیر۔المِمْلاط من النوق: بچہ گرانے کی عادی اونٹنی۔

۲۔مَلَطَ الشاعرُ: شاعر کا آدھا بیت پڑھنا اور دوسرے کا اسے پورا کرنا، ایک شاعر کا ایک مصرعہ پڑھنا اور دوسرے کا دوسرا مصرعہ ملا کر شعر پورا کرنا۔مالَطَ مُمالَطَةً: ایک شاعر کا ایک مصرعہ پڑھنا اور دوسرے کا دوسرا مصرعہ ملا کر شعر پورا کرنا۔

○ مَلَطَ - مَلطًا ہ: دیوار وغیرہ پر مٹی کا لیپ کرنا، دیوار پر گارے کا پلاستر کرنا، کو گارے یا مسالے سے جوڑنا: ۔۔۔ہ: (بال) مونڈنا۔مَلَّطَ ہ: دیوار وغیرہ کو مٹی سے لیپنا، دیوار پر گارے کا پلاستر کرنا، کو گارے یا مسالے سے جوڑنا۔مُلَط: مادر زاد ننگا، ننگ دھڑنگ۔ مِلْط جمع أملاط و مُلُوط: بے آبرو، ذلیل، بے شرم، بے عزت، موجب رسوائی، زبوں، شرمناک، بدمعاش، لچا، شہدا، غنڈہ، بدذات۔خِلْط مِلْط یا خَلْط مَلْط: گڈمڈ، خلط ملط، بے ترتیب، افراتفری میں، پراگندہ، الجھن میں۔مِلاط جمع مُلُط: گارا، چونے کا مسالہ۔السَّلِيط و أُمْلَط جمع مُلْط: بے بال، گنجا۔مالِطَة: مالٹا ایک ملک کا نام۔مالطي: مالٹا کا، مالٹا کا باشندہ۔

ملع: امْلَعَ - مَلْعًا - مَلْعًا الشاةَ: بکری کی کھال اتارنا۔عوام کہتے ہیں مَلَعَ الشيءَ: اس نے چیز کو پھاڑ ڈالا۔۔۔۔الفصيلُ أمَّهُ: بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔۔۔أمْلَعَ و انْمَلَعَ ت الناقةُ: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔ اِمْتَلَعَ الشاةَ: بکری کی کھال اتارنا۔۔۔۔الشيءَ: چیز کو اچک لینا، چھین لینا۔۔۔۔ت الناقةُ: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔المَلْع (مص): کہا جاتا ہے خَمْرٌ عليه مَلْعٌ واحد: وہ سب اس کے خلاف متفق ہیں۔المَلاع: بنجر بیابان۔جملٌ مَلوع م مَلُوع: تیز رفتار اونٹ۔ عُقابٌ مَلُوعٌ: جلد جھپٹنے والا العقاب۔المَلِيع: بنجر بیابان۔۔۔جمع مُلُع: تیز رفتار اونٹنی یا گھوڑا۔المَيْلَع: ادھر ادھر ملنے والا، تیز رفتار اونٹنی یا گھوڑا۔

۲۔المَيلَع: طویل لمبا، دراز۔

ملغ: مالَغَ مُمالَغَةً ہُ بالكلام: سے ناشائستہ کلام کے ساتھ مذاق کرنا۔تَمَلَّغَ في كلامه: گفتگو میں اپنے آپ کو بے وقوف ظاہر کرنا۔تَمالَغَ به: سے تمسخر کرنا، کا مذاق اڑانا، پر ہنسنا، کی ہنسی اڑانا۔المِلْغ جمع أملاغ و المالِغ جمع مُلاّغ۔ والأمْلَغ م مَلْغاء جمع مُلْغ: احمق فحش کلامی کرنے والا۔المَلُوغة: بے وقوفی، فحش کلامی۔

ملق: امْلَقَ - مَلْقًا الشيءَ: کو نرم کرنا، ملائم کرنا۔ ۔۔۔۔الشيءَ: کو مٹانا۔۔۔۔الثوبَ: کپڑے دھونا ۔۔۔۔الولدُ أمَّهُ: بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔مَلِقَ - مَلَقًا الخاتمُ في الإصبع: انگوٹھی کا انگلی میں ڈھیلی ہونا۔۔۔۔ہ و مَلِقَ لهُ و مالَقَهُ: کی چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا۔مَلَّقَ الأرضَ او الحائطَ: زمین یا دیوار کو ہموار کرنا۔أمْلَقَ: مال خرچ کر ڈالنا، مفلس ہو جانا ۔۔۔۔الدهرُ مالَهُ: زمانے کا مال کو ہاتھ سے نکال دینا، کنگال کرنا۔۔۔۔الثوبَ: کپڑے دھونا۔۔۔۔منہ: کے ہاتھ سے نکل جانا۔تَمَلَّقَ تَمَلُّقًا و تِمِلاّقًا الرجلَ و للرجلِ: کی چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا۔ ۔۔۔تِ المرأةُ العِلْكَ بفيها: عورت کا گوند کو چبانا۔ اِمْتَلَقَ الشيءَ: چیز کو نکال دینا۔اِنْمَلَقَ: نرم اور چکنا ہونا۔۔۔۔منہ: کے ہاتھ سے نکل جانا۔ المَخْضابُ: خضاب کا نرم و چکنا ہونا اور جاتا رہنا۔ اِستَمْلَقَ الولدُ أمَّهُ: بچے کا ماں کا دودھ پینا۔اِمَّلَقَ: نرم اور چکنا ہونا۔۔۔۔منہ: ہاتھ سے نکل جانا۔المالَق: ہینگا، زمین ہموار کرنے کا آلہ۔المَلَق (مص): دوستی، بڑی مہربانی، دعاء، ہموار زمین۔السَّلِق: کمزور۔ ۔۔۔و السَّلاق: بڑا خوشامدی، چاپلوس۔المَلَقَة: چکنا پتھر۔السِّلاق: سخت غریب، بہت چاپلوس اور خوشامدی۔ المِمْلَق و المِمْلَقَة: سہاگہ، زمین ہموار کرنے کا چوڑا پھٹا جسے بیل کھینچتے ہیں۔

۲۔مَلَقَ - مَلْقًا الرجلُ: تیز چلنا۔المَلَق: دوڑ میں نفاست اور تیز رفتاری۔کہا جاتا ہے لهذا الفرس مَلَق: یہ گھوڑا دوڑ میں نفیس اور تیز ہے۔فرسٌ مَلِقٌ و مَلِقَة: گھوڑا جس کے دوڑنے پر اعتماد نہ کیا جا سکے، بڑا مہربان۔المَلِيق: تیز رفتار۔کہا جاتا ہے رَجُلٌ او فرس مَلِيق: تیز رفتار مرد یا گھوڑا۔

۳۔مَلَقَ - مَلْقًا و مَلَقَ ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔

○ مَلِقَ - مَلَقًا ہ: کی خوشامد کرنا۔مَلَّقَ ہُ: کی خوشامد کرنا۔۔۔۔ہ: کو ہموار کرنا، کی سطح ہموار کرنا۔مالَقَ ہُ: کی خوشامد کرنا۔أمْلَقَ: غریب اور مفلس ہو جانا، تَمَلَّقَ ل/ إلی/ہ: کی خوشامد کرنا۔مَلِق و مَلاّق: خوشامدی، چاپلوس۔مَلَقَة جمع مَلَقات و أملاق: مصری میل، کوس، تقریباً ایک گھنٹہ چلنے میں طے ہونے والا فاصلہ۔مِمْلَقَة: سطح ہموار کرنے والا آلہ۔تَمْلِيق و تَمَلُّق: خوشامد، چاپلوسی۔

ملك: امَلَكَ - مَلْكًا و مُلْكًا و مِلْكًا و مَلَكَةً و مَمْلَكَةً و مَمْلِكَةً و مَمْلُكَةً الشيءَ: کا مالک ہونا۔۔۔۔علی القوم: پر غالب ہونا۔۔۔۔علی فلان أمْرَهُ: کے معاملہ پر غالب ہونا۔۔۔۔نفسَهُ: اپنے اوپر قابو رکھنا۔۔۔۔المرأةَ: عورت سے نکاح کرنا۔۔۔۔مَلْكًا العجينَ: آٹے کو اچھی طرح گوندھنا۔مَلَّكَ ہُ الشيءَ: کو کسی چیز کا مالک بنانا۔ ۔۔۔۔العجينَ: آٹے کو اچھی طرح گوندھنا۔۔۔۔القومُ فلانًا عليهم: فلاں کو اپنا بادشاہ بنانا۔۔۔۔ہ امرأةً: کا کسی عورت سے نکاح کرنا۔۔۔۔فلانًا أمْرَهُ: کو اس کے حال پر چھوڑ دینا۔مُلِّكَتِ المرأةُ أمْرَها: عورت کو طلاق کا اختیار دیا جانا۔أمْلَكَ ہُ الشيءَ: کو کا مالک بنانا۔۔۔۔القومُ فلانًا عليهم: قوم کا کسی کو اپنا بادشاہ بنا لینا۔۔۔۔فلانًا أمْرَهُ: کو اس کے حال پر چھوڑنا۔۔۔۔ہُ المرأةَ: کا عورت سے نکاح کرا دینا۔ تَمَلَّكَ الشيءَ: کا مالک ہونا۔۔۔۔علی القوم: قوم کا بادشاہ بن جانا۔تَمالَكَ عن كذا: سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔کہا جاتا ہے ما تَمالَكَ أنْ فعل

و عن ان فَعَلَ ذلك: وہ اپنے آپ کو یہ کام کرنے سے نہ روک سکا۔اِمْتَلَكَ الشيءَ: کا مالک ہونا۔ المَالِك (فا) جمع مُلّک و مُلّاك: بادشاہ۔المَلْك ج مُلُوك و أمْلاك: بادشاہ۔المُلْك جمع أملاك و مُلُوك: ملکیت، عظمت و اقتدار، تھوڑا پانی۔المِلْك (مص): کہا جاتا ہے مالہ مِلْكٌ: وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔هذا مِلْكُ يميني: وہ میری ملکیت ہے اور میرے زیر تصرف ہے۔ليس له مِلْكٌ: اس کے پاس پانی نہیں ہے۔اعطاني من ملكِه: اس نے مجھے وہ چیز دی جو اس کے اختیار میں ہے۔طَال مَلْكُهُ: اس کی غلامی طویل ہے۔مَلْكُ الطريق: راستہ کا بیچ (امثلہ بالا میں ہر سہ حرکات جائز ہیں)۔ مَلْكُ الدابة: واحد مِلاك: چوپایوں کی ٹانگیں۔ مالهٗ مَلْكٌ: وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔المَلَك: فرشتہ، ملکیت۔مالهٗ مَلَكٌ: وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔الماءُ مَلَكُ أمرٍ: پانی پر ہر بات کا انحصار ہے کیونکہ جب کسی قوم کے پاس پانی ہو تو وہ اپنے معاملات کے مالک ہوتی ہے۔المَلِك جمع مُلُوك و أملاك: الله تعالیٰ، بادشاہ، کسی امت، قبیلہ یا ملک کا صاحب اقتدار شخص۔المَلاك: اقتدار۔مَلاكُ الامر: سہارا، سرمایہ۔بقا۔القلب مَلاك الجسد: دل جسم کا سہارا ہے۔۔۔۔ جمع مَلائكه و مَلائِك مَلاك: کا مخفف، فرشتہ۔المِلاك: مثی ۔۔۔ في اصطلاح الحكومات: اپنے مناصب پر مستحکم لوگوں کی جماعت۔ کہا جاتا ہے أدْخِلَ فلان في مِلاك الجيش او في الملاك الحكومي: فلاں کو فوج یا حکومت کے شعبہ میں شامل کیا گیا۔مِلاكُ الامر: سہارا، سرمایہ، بقا۔المَلَكَة و المُلْكَة: ملکیت۔المَلَكة: ملکیت (کہا جاتا ہے هو مَلَكَةُ يميني: میں اس کا مالک ہوں) قابلیت، ملکہ، عادت، مہارت۔مثلاً کہا جاتا ہے عند فلان مَلَكَةُ النقد: تنقید نگاری فلاں شخص کا ایک ملکہ ہے۔مَلِكَةُ النحل: شہد کی مکھیوں کی ملکہ۔المَلاكة و المِلاكة و المُلُوكة: ملکیت، حق ملکیت۔المَلَكُوتُ: بادشاہی۔سلطنت۔ المَلَكُوتُ السماوي: آسمان میں قدسیوں کی رہائش گاہ (سریانی لفظ)۔المَلَكي م مَلَكِيَّة: شاہی۔المَلَكِيُّون: شام کے مسیحیوں کا نام جو خلقیدونی مجلس کی قرار دادوں کے زیر نگین بنائے گئے۔ان میں سے ایک شاخ ۱۸ صدی میں کیتھولک چرچ میں شامل ہو گئی دوسری شاخ ارتھوڈکس رومی تھے۔المَلِيك جمع مُلَكاء: بادشاہ۔الأُمْلُوك: اسم جمع بمعنی مُلُوك ہے۔المَمْلَكَة و المَمْلُكَة جمع مَمَالِك: شاہی شان شوکت، حکومت کے زیر نگیں ملک، بادشاہی۔المَمْلُوك (مفع) جمع مَمَالِيك: غلام مَمَالِيكُ مصر: یہ ترک چرکس اور مغل غلام تھے۔ایوبیوں نے عسکری خدمت میں ان سے مدد لی۔ ان کے بعض زعماء نے حکومت اور اقتدار حاصل کر لیا اور مصر میں بحری اور برجی ممالیک کے خاندانوں کی بنیاد رکھی۔

۲-المُلْك: پھلی دار پودوں کے بیج۔ابُو مالِك: بھوک یا بڑھاپا۔مالِكُ الحزينُ: بگلا۔المُلَيْكَة: صحیفہ۔ الأُمْلُوك (ح): ریگستان میں پایا جانے والا کیڑا جو چھپکلی سے مشابہ ہوتا ہے۔

مَلَكَ-مَلْكًا و مُلْكًا و مِلْكًا ہ: کو قبضہ میں لینا، کام کاج سنبھالنا، کا مالک بننا، کو حاصل کرنا، کو اکتساب کرنا، پر قبضہ کرنا، کو زبردستی لے لینا، کو ہتھیانا، پر اپنا قبضہ جمانا، کا قبضہ لینا، کا مالک ہونا، کو رکھنا، پر غلبہ یا تسلط رکھنا، پر کنٹرول رکھنا، کو قابو میں رکھنا، کا آقا ہونا۔ ۔۔۔ ہ/علی: پر حکومت کرنا، حکمرانی کرنا، پر اختیار سے کام لینا، پر صاحب اقتدار ہونا، کو قبضہ میں رکھنا، پر حکم چلانا۔۔۔ ہ: کا اہل ہونا۔۔۔ ہ: کے مساوی ہونا۔۔۔ ہ/أن: کچھ کرنے کے قابل ہونا۔مَلَكَهُ الغيظُ: غصہ نے اسے گھیرے میں لے لیا، غصہ نے اس پر فتح پائی، غصہ نے اسے شکست دی۔ملك عليه جميعَ مشاعِره: کے ہر خیال اور کام پر غلبہ یا تسلط رکھنا، کے ذہن پر سب سے اوپر ہونا۔ملك عليه حِسَّهُ: کے احساسات پر قبضہ کر لینا۔ملك عليه لُبَّهُ: کے دل کو پہلے ہی قبضہ میں لے لینا۔ملك عليه نفسَهُ: کی روح کو پکڑ لینا، کی سوچ پر غلبہ رکھنا یا تسلط رکھنا، کو سخت متاثر کرنا، کو جوش میں لانا، بھڑکانا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا، اشتعال دلانا۔ملك على نفسه أمرَها: اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، غصہ قابو میں رکھنا۔ملك العينين من البُكاء: آنسو روکے رکھنا۔ملك نفسَهُ: اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔لم يملك ان: وہ سے باز نہ رہ سکا، وہ اس سے بچ نہیں سکا، اسے کرنا پڑا۔ما ملكت (يملك) يمينهُ: اس کی دولت، اس کی جائداد، اس کی ملکیت، اس کا سب کچھ۔مَلَّكَ و أَمْلَكَ ہ: کو مالک بنانا۔۔۔ ہ: کو کے قبضہ میں دینا، کو کی ملکیت منتقل کرنا۔۔۔ ہ ہ: کو کچھ منتقل کرنا، کو کچھ تفویض کرنا، دینا یا سونپنا، کو کے حوالے کرنا۔۔۔ ہ على: کو کا بادشاہ بنانا۔تَمَلَّكَ ہ: کا قبضہ لینا، کو سنبھالنا، کا قبضہ لینا، پر قبضہ کرنا، کو زبردستی لے لینا، پر ہاتھ ڈالنا، کو تھامنا، پکڑنا، کا مالک ہونا، پر قابض ہونا۔۔۔ على: کا بادشاہ ہونا، فرمانروا ہونا۔۔۔: رائج ہو جانا، پھیلا ہوا ہو جانا، قائم، مستحکم، مضبوط، جما ہوا یا گڑا ہوا ہو جانا، عادت کا جڑ پکڑنا، مستحکم ہو جانا۔تَمالَكَ ہ: احساس پر قابو پانا ۔۔۔ نفسَه: اپنے آپ پر قابو پانا۔۔۔: اپنے آپ پر قابو رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔۔۔ عن: سے احتراز کرنا، سے باز رہنا۔ما تَمالَكَ عن: وہ سے بچ نہیں سکا، وہ سے باز نہیں رہ سکا۔اِمْتَلَكَ ہ: کا مالک ہونا، پاس ہونا، قبضہ میں ہونا، کو حاصل کرنا، جیتنا، کا مالک بننا۔اِمْتَلَكَ نواصِيَ الشيءِ: کا مالک ہونا، پر حکومت کرنا، پر حکمرانی کرنا۔اِسْتَمْلَكَ ہ: کو اپنانا، کا مالک بن بیٹھنا، پر قابض یا متصرف ہونا، کا قبضہ لینا، پر قبضہ یا تسلط رکھنا، پر کنٹرول رکھنا، کا مالک ہونا، کو رکھنا، کو قابو میں رکھنا۔مُلْك: حکومت، فرمانروائی، اقتدار اعلیٰ، تسلط، غلبہ، حکمرانی، اثر، اقتدار، حاکمیت، بادشاہی، بادشاہت، شاہی اقتدار، ملوکیت، حق لگان داری، حق قبضہ، زمین برائے کاشت، حق قبضہ، ملکیت۔مِلْك جمع أمْلاك: ملکیت، جائداد، سب کچھ، سامان و مال منقولہ، دولت، زمینداری، ریاست تعلقہ، زرعی جائداد، غیر منقولہ جائداد جمع املاك: نو آبادیات، زمینیں، زمینی جائداد، زمینداریاں، تعلقے۔ أمْلاك أمِيرِيَة يا املاك الحكومة: حکومت کی زمینیں۔مِلْك ثابت: زرعی جائداد، حقیقی جائداد، غیر منقولہ جائداد۔ملك منقول: ذاتی جائداد منقولہ جائداد، ذاتی ملکیت، منقولہ اسباب۔املاك مَبْنِيَّة: ترقی یافتہ قطعات، غیر منقولہ جائداد کی ترقی یافتہ حالت۔صاحب الأمْلاك يا ذو الاملاك: مالک زمین۔ملك اميري: حکومت کی جائداد۔ملك مُطْلَق: عام یا عمومی جائداد۔ملك شائِع: مشترکہ جائداد، مشترکہ ملکیت، مشترکہ لگان داری۔مَلِك جمع مُلُوك و أملاك: بادشاہ، فرمانروا، شہنشاہ۔مَلِكَة جمع مَلِكات: ملکہ۔مَلِكَةُ الجمال: ملکہ حسن۔ مَلَك (برائے ملاك): فرشتہ۔ملك حارس: محافظ فرشتہ۔مُلْكي: قبضہ سے متعلق، مالکانہ، حکومت کا، غیر فوجی اہلکار ملکی۔بَدْلَة ملكية: سول کپڑے۔ مُوَظَّف ملكي: سول سرونٹ۔مَلَكي: شاہی، شاہانہ، حسین اور معصوم۔مَلَكِيَة: بادشاہی، ملوکیت، بادشاہت، شاہی اقتدار۔مِلْكِيَة جمع مِلْكِيات: جائداد، ملکیت۔الملكية الكُبْرىٰ: وسیع و عریض زرعی جائداد۔نَزْعُ الملكية: ملکیت سے بیدخلی،

بے دخلی۔ مَلَكَة جمع مَلَكَات: کردار کی خصوصیت یا طرۂ امتیاز، قدرتی افتادِ طبع، شوق، میلان، مناسبت، رجحان، رغبت، ملکہ، قابلیت، صلاحیت، استعداد، طباعی، جوہر، ذہانت، مہارت، ہنر۔ مَلَكُوت: قلمرو، بادشاہی، سلطنت، بادشاہت، شاہی اقتدار، حاکمیت، اقتدار اعلیٰ۔ مَلَكُوت السَّمٰوَات: آسمانی بادشاہت۔ مَلَكُوتِي: آسمانی، خدائی، الٰہی۔ مِلَاك و مَلَاك: بنیاد، لازمی بنیادی شرط۔ [illegible]: منگنی، نسبت، منگنی کا تحفہ جو منگیتر اپنی مستقبل کی دلہن کو دیتا ہے۔ مُلُوكِي: شاہی۔ مُلُوكِيَّة: شاہی حکومت، ملوکیت پسندی، بادشاہی، بادشاہت، شاہی اقتدار، ملوکیت پسندی کا رجحان۔ مَالِك جمع مُلَّاك: مالک، زمین کا مالک، زرعی زمین والا، مالک یا مزارع، زرعی زمین کا مالک۔ [illegible] كبير: زمینوں کے بڑے مالک۔ [illegible]: نجی، پرائیویٹ۔ مَلِك جمع مُلُوك: شاہ، مالک۔ مَلِكَة: ملکہ، رانی۔ مَمْلَكَة جمع مَمَالِك: بادشاہت، شہنشاہی، سلطنت، قلمرو، ریاست، ملک، شاہی اختیار، حاکمیت، اقتدار اعلیٰ۔ تَمْلِيك: انتقال ملکیت، ملکیت کی منتقلی، انتقال جائداد۔ تَمَلُّك: قبضہ لینا، قبضہ، ضبطی، قرقی، حق قبضہ، لگان داری، پٹہ، اجارہ، تسلط، غلبہ، کنٹرول، سرداری، حاکمی۔ تَمَالُك: ضبطِ نفس۔ اِمْتِلَاك: قبضہ لینا، قبضہ، ضبطی، حق قبضہ، لگان داری، پٹہ، اجارہ، غلبہ، تسلط، کنٹرول، سرداری، حاکمی۔ اِمْتِلَاك النَّفْس: ضبطِ نفس (self control)۔ اِسْتِمْلَاك جمع اِسْتِمْلَاكَات: تحصیل، حصول، اکتساب، دستیابی، تصرف، قبضہ، ضبطی۔ مَالِك جمع مُلَّاك و مُلَّك: حاکم، مالک، قابض، رکھنے والا۔ مَالِكُ الحَزِين: بگلا۔ مَالِكِي: فقہ امام مالک کا پیرو، مَالِكِي — المَالِكِيَة: مالکی مدرسہ فکر۔ مَمْلُوك لـ: کا ملکیتی، کے قبضہ میں، سے متعلق۔ جمع مَمَالِيك: سفید فام غلام۔ مَمْلُوك — غير مَمْلُوك: انفرادی قبضہ کے ناقابل۔ مُمَلِّك: منتقل کرنے والا، مُمْتَلَك: ملکیتی، زیر قبضہ جمع مُمْتَلَكَات: جائداد، زمینی جائداد، جاگیریں، املاک، اشیاءِ مقبوضہ، مال و دولت، مال و متاع، محکومی علاقے یا ملک، نوآبادیاں۔ مُمْتَلَكَات أميرية: حکومت کی جائداد۔ المُمْتَلَكَات المنقولة: جاگیریں۔

مالن: المَالَنْخُولِيَا: مالیخولیا، خفقان، وحشت، سودا (melancholia)۔

ملو: ۱۔ مَلَا يَمْلُو مَلْوًا البعيرُ: تیز چلنا، دوڑنا۔ مَلَّى هُ اللهُ عُمْرَهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی عمر دراز کرنا اور اس سے مستفید کرنا — ہ اللهُ حبيبَهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو اس کے محبوب سے تمتع کو طول دینا، جو نیا لباس پہنے اسے کہتے ہیں: ابليت جديدا و تمليت حبيبا: یہ لباس تمہارے ساتھ رہے اور تم محبوب سے متمتع ہوتے رہو۔ مُلِّيَ و تَمَلَّى عمرَهُ: کی عمر دراز ہونا اور اس سے متمتع ہونا۔ — حبيبَهُ: محبوب سے عرصہ تک فائدہ اٹھانا۔ أَمْلَى إِمْلَاءً اللهُ فلانًا عُمْرَهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی عمر دراز کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانے دینا۔ — البعيرَ و للبعيرِ: اونٹ کے پاؤں کے بندھن کو ڈھیلا کرنا۔ — اللهُ الظالمَ و لَهُ: اللہ تعالیٰ کا ظالم کو مہلت دینا۔ — لَهُ في غَيِّهِ: کی گمراہی کے زمانہ کو دراز کرنا۔ — عليه الزمنُ: کیلئے زمانہ کا لمبا ہونا۔ المَلَا جمع أَمْلَاء: صحراء، وسیع زمین، زمانہ دراز۔ المَلَاة جمع مَلًا: سنگریزوں کا بیابان۔ المَلَاوَة والمَلْوَة (بتثليث الميم) عرصہ۔ المَلَوَان واحد مَلًا: رات دن۔ المَلِيّ: زندگی کی مدت، زمانہ دراز۔ کہا جاتا ہے: انتظرته مليًّا: میں نے اس کا بہت عرصہ انتظار کیا۔ مَرَّ مَلِيٌّ من الليل: رات کے شروع سے تہائی رات گزری۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی رات کا ایک ٹکڑا ہے۔ الإِمْلَاء (مص) جمع أَمَالٍ و أَمَالِيّ: مہلت دینا، تاخیر کرنا۔

۲۔ أَمْلَى إِمْلَاءً عليه الكتابَ: سے کچھ لکھوانا۔ اِسْتَمْلَى هُ الكتابَ: سے لکھوانے کی درخواست کرنا۔ الإِمْلَاء جمع أَمَالٍ و أَمَالِيّ: املا کئے ہوئے اقوال۔ الأَمَالِيّ: املا کئے ہوئے اقوال اور خلاصے۔ یہ إملاء کی جمع ہے جو أَمْلَى الكتاب کا مصدر ہے۔

۳۔ المَلَا، جمع أَمْلَاء: گرم راکھ۔

مَلَّى ہ: کو سے عرصہ تک لطف اندوز کرنا (اللہ تعالیٰ کی طرف سے)۔ أملى على ہ: کو کچھ املا کرانا، سے کچھ لکھوانا۔ تَمَلَّى ہ/ب/من: سے لطف اندوز ہونا۔ اِسْتَمْلَى ہ: املا سے کچھ لینا۔ مَلًا جمع أَمْلَاء: کھلی زمین کا قطعہ، کھلا علاقہ یا ملک، لق و دق صحراء، سرد صحراء، ریگستان، بیابان۔ المَلَوَان: دن اور رات۔ مَلْوَة: ایک خشک پیمانہ۔ مَلِيّ: نسبتاً لمبا عرصہ۔ مَلِيًّا: لمبے عرصہ تک۔ إملاء: لکھوانا، املا کرنا۔ (ٹیلیفون پیغام کی) ترسیل۔ مِلَايَة جمع مِلَايَات (مُلَاءَة): چادر۔ مِلْيَة جمع مَلَايَا: بدو عورتوں کا لباس۔ مِلْيَار جمع مِلْيَارَات: ایک ہزار ملین۔ مِلِّيجرام: ملی گرام۔ جمع مِلِّيجرامات۔ مِلِّيم جمع مِلِّيمات و مَلَالِيم: مصر میں سب سے چھوٹی نظام زر کی وحدت۔ جو 1/1000 پونڈ کے برابر ہے۔ مِلِّيمتر جمع مِلِّيمترات: ملی میٹر (millimeter)۔ مَلْيُون جمع مَلْيُونَات و مَلَايِين: ملین (یعنی دس لاکھ)۔ اصحاب المَلَايِين: لکھ پتی (لوگ)۔ مم: ملی میٹر کا اختصار۔ مِمَّا مِمَّ کی مختصر شکل۔ مِمَّن: (مِن مَن)۔

ملی: المِلْيَار (ع ح): ایک ہزار ملین (فرانس)۔ المَلْيُون جمع مَلَايِين (ع ح): ایک ہزار ہزار یعنی دس لاکھ۔

مم: مِمَّ: (من و ما استفهامیه) کس سے؟

ممث: المَمُوث (ح): گرانڈیل ہاتھی۔ جو برفانی دور میں یورپ میں موجود تھا۔ اس کے بعد سائبیریا میں زندہ رہا۔ جہاں اس کی لاش برف میں محفوظ پائی گئی۔ قبل از تاریخ کے انسان نے اسے دیکھا تھا اور غاروں کی دیواروں پر اس کے پہلو کی تصویر بنائی تھی۔

من: ا۔ مِن۔ حروف جارہ میں سے ہے۔ مندرجہ ذیل معانی میں مستعمل ہے۔

۱۔ ابتداء الغاية: جیسے مرض من یوم الجمعۃ وہ جمعہ کے دن سے بیمار ہوا۔ سار من بيروت: وہ بیروت سے چلا۔

۲۔ تبعيض: جیسے مِنهم من احسن و منهم من اساء: ان میں سے بعض نے اچھے کام کئے اور بعض نے برے۔

۳۔ تعليل: جیسے مِمَّا خطيئاتهم أُغرقوا: وہ بوجہ اپنے قصوروں کے غرق کئے گئے۔

۴۔ بدل: جیسے اترضون بالحياة الدنيا من الأخرة: کیا تم آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی پر خوش ہوتے ہو۔

۵۔ باء کے مترادف: جیسے ينظرون من طرف خفي: پوشیدہ نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں۔

۶۔ بمعنی فصل: جیسے واللہ یعلم المفسد من المصلح: اللہ تعالیٰ مفسد اور مصلح کے درمیان تمیز کرتا ہے۔

۷۔ زائد جیسے: ماجاء نی من رجلٍ۔ میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا۔ اس کی تین شرطیں ہیں۔ پہلی: اس سے پہلے نفی آئے یا نہی یا استفہام دوسری مجرور نکرہ ہو۔ تیسری: مجرور فاعل، مفعول بہ یا مبتداء ہو۔ اس کے اور بھی بہت سے معانی ہیں۔ جو قرائن سے معلوم ہوتے ہیں۔

۲۔ مَن: اسمِ شرط مضارع کو جزم دیتا ہے جیسے من يَعْمَلْ خيرًا يُجْزَ بهِ: جو نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

۲۔ بطور اسم استفہام جیسے: مَنْ أَتَى؟ کون آیا؟

۳۔بطور اسم موصول مشترک۔ اکثر ذوی العقول کے لئے مستعمل ہے جیسے: یسجد للہ من فی السمٰوات و من فی الارض: جو بھی آسمانوں اور زمین ہے اللہ کے آگے ساجد ہے۔

۴۔بطور نکرہ موصوفہ: جیسے مررت بمن معجب لك: میں ایسے (مرد) کے پاس سے گزرا جو تجھے پسند ہے۔

من. مَنَّ ـُـ مَنًّا و مِنِّینَی علیہ بکذا: ـــ سے کی بھلائی کرنا، پر انعام کرنا ـــ مَنًّا و مِنَّةً علیہ بما صَنَعَ: پر احسان جتانا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا۔ مَانَّ مُمَانَّةً ہٗ: کسی کی حاجت روائی میں آنا جانا۔ تَمَنَّنَ فلانٌ فلانًا و تَمَنَّنَ علیہ: پر احسان جتا کر اس کو تکلیف پہنچانا۔ اِمْتَنَّ اِمْتِنَانًا علیہ بما صنع: پر احسان جتانا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا۔ ـــ علیہ بکذا: ـــ سے کی بھلائی کرنا۔ ـــ فلانًا: پر مقدور بھر احسان کرنا۔ اِسْتَمَنَّ ہٗ: سے احسان طلب کرنا۔ المَنّ (مص): احسان، انعام۔ ایک قسم کا میٹھا گوند۔ مَنّ بنی اسرائیل: وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنی اسرائیل کے لئے غذا بنا کر اتارا تھا۔ المِنَّة (مص) جمع مِنَن: احسان۔ کہا جاتا ہے: لہ علیَّ منّةٌ او مِنَن: اس کا مجھ پر احسان ہے یا احسانات ہیں۔ ملامت آمیز احسانات۔ المِنَّة تهدم الصنيعة: احسان جتانا احسان کو منہدم کر دیتا ہے۔ المُنَّة جمع مُنَن: قوت، طاقت، کمزوری (ضد) المَنَّان م مَنَّانة: بہت احسان کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، احسان جتانے والا۔ المَنُون و المَنُونة م مَنُون: بہت احسان جتانے والا۔ المَنِین جمع مُنُن و اَمِنَّة: طاقت ور، کمزور (ضد)۔ المَمْنُون (مفع): طاقت ور، کمزور (ضد)، مقدور بھر (کوشش وغیرہ)۔ کہا جاتا ہے: بلغتُ مَمْنُونَہ: میں اس کی مقدور بھر تعریف کو پہنچا۔ عام لوگ کہتے ہیں انا ممنون لك: میں آپ کا احسان مند ہوں۔ میں آپ کا ممنون ہوں۔

۲۔مَنَّ ـُـ مَنًّا الرجلَ: کو کمزور کرنا۔ ـــ الحبلَ: رسی کو کاٹنا۔ ـــ الشیءُ: کم ہونا۔ ـــ الناقةَ: سفر سے اونٹنی کو لاغر کرنا۔ مَنَّنَ تَمْنِینًا الناقةَ و بها: اونٹنی کو سفر سے لاغر کرنا۔ اَمَنَّ و تَمَنَّنَ الرجلَ: کو کمزور کرنا۔ المُنَّة جمع مُنَن: کمزوری، طاقت (ضد)۔ المَنُون: موت (مونث ہے۔ کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ذهبت بهم المنون: موت انہیں لے گئی۔) زمانہ۔ ریبُ المَنُون: حوادث و تکالیف زمانہ۔ المَنِین جمع مُنُن و اَمِنَّة: کمزور، طاقت ور، گرد وغبار، خفیف یا ہلکا گرد وغبار۔ المَمْنُون (مفع): کٹا ہوا، کمزور، طاقت ور (ضد)۔

۳۔المَنّ جمع اَمْنَان: پیمانہ یا وزن شرعاً ۱۸۰ مثقال کے برابر۔ اور عملاً ۲۸۰ مثقال کے برابر۔ المَنَنَہ (ح): مکڑی (ح) مادہ مکڑی۔ المَنُونة (ح): مکڑی۔

مَنَّ ـُـ مَنًّا علی: پر مہربان ہونا، مشفق ہونا، شفیق ہونا، رحیم و کریم ہونا، فیض رساں ہونا، احسان کرنا، کرم فرمائی کرنا، مہربانی کرنا، کو فائدے پہنچانا، کو کچھ انعام میں دینا۔ ـــ علی ب: کو کی خوش نصیبی عطا کرنا یا کو کے دل میں ڈالنا، فیضان کرنا (اللہ تعالیٰ کا)۔ اَمَنَّ ہ: کو تھکانا، کمزور کرنا۔ تَمَنَّنَ ہ: کو تھکانا، کمزور کرنا۔ اِمْتَنَّ علی: پر مہربان ہونا، مشفق ہونا، احسان کرنا، کرم فرمائی کرنا، مہربانی کرنا، کو فائدے پہنچانا، کو کچھ انعام میں دینا۔ مَنّ: مہربان عطیہ، دان، بخشش، مہربانی، احسان، فائدہ، خدا کی رحمت، تحفہ، برکت عطیہ، انعام و اکرام۔ مَنّ جمع اَمْنَان: ۲ رطل کا وزن۔ بمنہ تعالیٰ: اللہ کے لطف و کرم سے۔ مِنَّة: لطف و کرم، نوازش، مہربانی، کرم، خیر خواہی، خیر اندیشی، خیر سگالی، دوستی، دوستانہ سلوک، دل آویزی، رحیمی کریمی، بہی خواہی، فیض رسانی، کرم فرمائی، مہربانی، شفقت، الطاف اعانت، حمایت، التفات احسان، مہربانی کا کام، فائدے کا کام، تحفہ، عطیہ۔ مُنَّة جمع مُنَن: طاقت، قوت، جان، سکت، قوت برداشت شدید المُنَّة: طاقت ور، ہٹا کٹا، زور آور۔ مَنَّان: مہربان، شفیق، مشفق، کریم، رحیم، دانا، سخی فیاض، دریا دل، کشادہ دل۔ المَنَّان: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک۔ مَنُون: موت۔ مَمْنُون: کمزور مشکور ممنون، احسان مند۔ ـــ ل: کا شکر گزار، کا احسان مند، کا ممنون۔ مَمْنُونِیَة: احسان مندی، ممنونیت، شکر گزاری۔ مُمْتَن ل: کا شکر گزار، کا بہت احسان مند۔

منا: اَمَنَأ ـَـ مَنْأً الجلدَ: چمڑا رنگنا۔ المَنِیئَة: پہلی بار رنگا جانے والا چمڑا۔ رنگنے کی جگہ۔ المَمْنَأة: کالی زمین۔

۲۔مَنَأ ـَـ مَنْأً فلانًا: کی اپنے جیسے کام کرنے پر موافقت کرنا۔

منج: المانجا و المانغا (ن): دیکھو الأنْبَج۔

المانجرو (ن): دوشاخہ درختوں کی ایک قسم جو استوائی ملکوں کے ساحلی جنگلوں میں اگتے ہیں۔

المَنْجَنُوق و المَنْجَلیق جمع مَجَانِق مَجَانِیق مُنْجَنِیقَات: [illegible] میں قلعے کی دیواروں پر پتھر پھینکنے کی مشین (یونانی لفظ)۔

منتول: ست پودینہ (menthol)

مَنْجَنِیق مونث جمع مَنْجَنِیقَات و مَجَانِق: مَنْجَنِیق (ballista)، گوپھن (catacpult)۔

مَنْجُو: آم۔

منح: مَنَحَ ـَـ مَنْحًا ہٗ الناقةَ و کل ذات لبن: کو اونٹنی اور ہر دودھ والا جانور فائدہ اٹھانے کیلئے دینا۔ صفت مفعولی المَنِیح و المَنِیحَة جمع مَنَح و مَنَائِح۔ ـــ ہٗ الشیءَ: کو کوئی چیز دینا، عطا کرنا۔ مَانَحَ مِنَاحًا و مُمَانَحَةً ہٗ: کو لگاتار عطیہ دینا۔ ـــ ت العینُ: آنکھ کا لگاتار آنسو بہانا۔ ـــ ت الناقةُ: ایک اونٹنی کا جاڑے میں دودھ اس وقت دینا جب کہ اور اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہو۔ اَمْنَحَت الناقةُ: اونٹنی کا جننے کے قریب پہنچنا۔ صفت مُمْنِح۔ تَمَنَّحَ المالَ: مال کو دوسرے کو کھلانا۔ اِمْتَنَحَ الرجلُ: بخشش لینا۔ کہا جاتا ہے: اُمْتُنِحَ مالاً: وہ مال دیا گیا۔ ـــ المَنِیحَ: جوئے کا تیر جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ادھار لینا۔ اِسْتَمْنَحَ ہٗ: سے بخشش طلب کرنا۔ المُنْحَة جمع مُنَح: عطیہ بخشش۔ المَنَّاح: بہت دینے والا۔ المَمْنُوح: اونٹنی جو سردیوں میں دودھ دے جب کہ دوسری اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہو۔ المَنِیح: جوئے کا وہ تیر جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ المُمَانِح: جاڑے میں دودھ دینے والی اونٹنی جب کہ دوسری اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہو۔ مطر مُمَانِح: نہ رکنے والی بارش۔ ریح مُمَانِح: بادل بردار ہوا۔

مَنَحَ ـَـ مَنْحًا ہ: کو کچھ دینا، عطا کرنا، کو کچھ مرحمت کرنا۔ مَانَحَ ہ: پر نوازش کرنا، مہربانی کرنا۔ مَنْح: عطا کرنا، دینا، عطیہ دینا، عطیہ، دان، بخشش، نوازش، انعام دینا۔ مِنْحَة جمع مِنَح: مہربانی کرم فرمائی، مراعات، تحفہ، عطیہ، مہربانی، فائدہ، خیرات، معاوضہ، عوض، بدلا، اُجرت، وظیفہ، ہرجانہ، وظیفہ (جو ذہین طلبہ کو دیا جاتا ہے)، گزارہ الاونس۔ مِنْحَةُ الاقامة: سکونتی الاونس۔ مِنْحَة جامعیة: علمی وظیفہ (academic scholarship)۔ مِنْحَة السُکْنَی: رہائشی الاونس، کرایہ الاونس۔ مَانِح: دینے والا، ہبہ کرنے والا، عطا کنندہ، چندہ دینے والا، عطا کرنے والا۔

مند: المَنْدَرِین (ن): ایک قسم کا درخت جس کا پھل مزیدار ہوتا ہے۔ سنترہ کی قسم کا۔

مَنْدِیل و مِنْدِیل جمع مَنَادِیل: عورتوں کا سر پر باندھنے کا رومال، رومال۔

منذ، مُنذُ و مُذْ: میم کبھی مسکور آتی ہے۔ حرف جر ہیں۔ اگر زمانہ ماضی ہو تو مِن کا معنی دیتے ہیں جیسے: ما رأیتهُ منذ یوم الاحد: میں نے اس کو اتوار سے نہیں دیکھا۔ اگر حال کا زمانہ ہو تو فی کے معنی میں آتے ہیں۔ جیسے: رأیته منذ شهرنا: میں نے اس کو ماہ رواں میں دیکھا ہے۔ اگر معنی معدود ہو تو مِن والی کے معنی میں آتے ہیں جیسے: ما رأیتهُ منذ ثلاثة أیام: میں نے اسے تین دن سے یا تین دن تک نہیں دیکھا۔ ان کے بعد اسم مرفوع آتا ہے: جیسے ما رأیته مذ یومان: میں نے اسے دو دنوں سے نہیں دیکھا۔ اس صورت میں گویا کہا گیا ہے: مُذ کان یومان ان کے بعد جملہ فعلیہ یا اسمیہ آتا ہے جیسے منذ زلتُ ابغی المالَ منذ انا یافع: جب سے میں جوان ہوا ہوں مال کی تلاش میں ہوں۔ تو اس وقت یہ ظرف ہوتے ہیں اور جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ مُذ مُنذ کا مخفف ہے۔

منذ شهر: گذشتہ ایک ماہ سے۔ منذُ ایام: چند روز قبل، پچھلے چند دنوں سے۔ منذ عهد قریب: حال ہی میں۔ منذ الآن: اب سے، آج سے، آج کے بعد۔ منذ الیوم: آج کے بعد، آج سے۔ مُنذ کنت طفلا صغیرا: اس وقت سے جب میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔

بحر المنش: رود بار انگلستان۔ مَنشُوبِیَة: اڈا، رہائشی علاقہ۔ منشوری: منچوری۔ مُنصُون: موسمی ہوائیں (monsoon)۔ منطر: نیچے گرانا۔ مَنطَقَ ہ ب: کو سے باندھنا۔ تمنطق ب: اپنے آپ کو سے باندھنا، اپنے آپ پر پٹیاں باندھنا، اپنے جسم کے گرد کوئی چیز باندھنا۔ مَنطوفلة: سلیپر (slipper)۔

منز: المنیزیُوم (ل): میگنیشیم (magnesium)۔

منع: مَنَعَ منعًا هُ الشیءَ و منه و عنه: کو سے محروم کرنا، روک دینا۔ هُ القاضی عن المیراث: کو قاضی کا میراث سے روک دینا۔ هُ عن الدعوی: کو دعوی کرنے سے باز رکھنا۔ جارَهُ: اپنے پڑوسی کی حمایت کرنا اور اسے بچانا۔ مَنُعَ مناعةً و مناعًا: قوی ہونا، مضبوط ہونا۔ الحصنُ: قلعہ تک پہنچنا مشکل ہونا۔ الشیءُ: دشوار ہونا صفت مَنِیع۔ منع ہ الشیءَ و منه و عنه: کو سے محروم کرنا، کو سے روکنا۔ هُ القاضی عن المیراث: کو قاضی کا میراث سے روک دینا۔ هُ عن الدعوی: کو دعوی سے روکنا۔ مَانَعَ هُ: کی حمایت کرنا۔ هُ الشیءَ: کو سے روکنا۔ تمنّع عن الشیءِ: سے باز رہنا، رکنا۔ بقومه: قوم کی حمایت میں آنا، قوم سے قوت پکڑنا۔ تمانَعَ: ایک دوسرے کو روکنا۔ عن انفسهما: ایک دوسرے کی حمایت کرنا۔

الشیءِ: سے رکنا۔ بقومه: قوم کی حمایت میں آنا، قوم سے قوت پکڑنا۔ الشیءُ: مشکل الحصول ہونا۔ ناممکن الحصول ہونا۔ المانِع (فا) جمع مَانِعون و مَنَعَة: کنجوس، بخیل۔ جمع موَانِع: روک، روکنے والا۔ المنع جمع مُنُوع (ح): کیکڑا۔ رجُلٌ مَنِع: اپنے نفس کو روکنے والا۔ المَنعَة و المِنعَة: بدی سے روکنے والی قوت۔ المَنَعَة جمع مَنَعات: شوکت، قوت۔ کہا جاتا ہے: لهم منعاتٌ: وہ مضبوط قلعوں والے ہیں جو دشمن کے لئے نا قابل فتح ہیں۔ مَناعِ: اسم فعل بمعنی اِمنعْ: روک دے۔ المَناعَة (طب): جسم کی وہ قوت جو اس کو امراض سے محفوظ رکھے۔ المَنَّاع: بہت زیادہ منع کرنے والا۔ کنجوس۔ بخیل۔ المَنُوع: بہت زیادہ روکنے والا۔ المَنعَی: امتناع کے معنی میں اسم۔ المنیع م منیعَة: نا قابل تسخیر۔ حصن منیع: نا قابل تسخیر قلعہ، قلعہ جس تک رسائی مشکل ہو۔

مَنَع منعًا ہ: کو داخل ہونے یا گزرنے سے روکنا، دور رکھنا۔ ...... ہ: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو نہ ہونے دینا۔ ...... ہ عن/من: کو سے روکنا، باز رکھنا۔ — ہ: کا تنگ راستہ، یا رسائی روکنا۔ — ہ ہ/ عن/ من: کو سے دور رکھنا۔ — ہ ہ عن/من: کو سے محروم کرنا؛ کو سے منع کرنا، پر کی قدغن لگانا، پر کی مخالفت کرنا، کو سے محروم کرنا، کو سے روکنا۔ ...... أن: قبول کرنے سے انکار کرنا کہ، کو ناممکن قرار دینا۔ ...... ہ ہ/ہ عن: کچھ نہ دینا، کو سے روک لینا، کو سے دور رکھنا، ہٹانا، پھیرنا، روکنا، کو سے محفوظ رکھنا، بچانا۔ ...... ہ/ہ عن: کی سے حفاظت کرنا، کا کے خلاف دفاع کرنا۔ مَنُعَ مَناعا و مَناعَةً: نہایت مضبوط ہونا، مستحکم ہونا، نا قابل رسائی ہونا، نا قابل تسخیر ہونا، نا قابل فتح ہونا، نا قابل شکست ہونا۔ مَنَّعَ ہ: کو مستحکم کرنا، مضبوط کرنا، کی قلعہ بندی کرنا، کے استحکامات کرنا، کو نا قابل رسائی بنانا۔ مَانَعَ ہ: کی مزاحمت کرنا، کا دفعیہ کرنا، کے خلاف کام کرنا، کے خلاف بغاوت کرنا، کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا۔ — فی: کو طاقت سے روکنا، کی مخالفت کرنا، کا مقابلہ کرنا، پر اعتراض کرنا، کے خلاف بغاوت کرنا۔ — ہ ہ: کو کوئی چیز نہ دینا۔ تَمَنَّع عن: کو کرنے سے انکار کرنا، سے باز رہنا، سے احتراز کرنا، کو نہ کرنا، کو چھوڑ دینا، کو کرنے سے رک جانا، سے پہلو تہی کرنا، سے کنی کترانا، سے پہلو بچانا، سے بچنا۔ تَمَنَّع: نا قابل رسائی ہونا یا ہو جانا، زوردار یا مستحکم ہونا یا ہو جانا، نا قابل تسخیر ہونا یا ہو جانا، مضبوط ہونا، زیادہ مضبوط ہونا۔ — ب: کے پاس یا میں حفاظت طلب کرنا۔ اِمتَنَع عن: سے باز رہنا، سے احتراز کرنا، کو نہ کرنا، کو کرنے سے رک جانا، سے رکنا، باز رہنا۔ — علی: کے لئے ناممکن ہونا۔ — عن: کو کرنے سے انکار کرنا، کو مسترد کرنا۔ — علی: سے کوئی تعلق کا انکار کرنا، سے علیحدہ رہنا۔ منع: روکنا، رکاوٹ، دور کرنا، باز رکھنا، امتناع، ممانعت، پابندی، بندش، قید، بیوقوفی، پابندیاں، دست برداری، محرومی، روکے رکھنا، توقف۔ مَنَعَة: مزاحمت، طاقت، قوت، سکت، دور نہ ہوسکنا، نا قابل عبور ہونا، نا قابل تسخیر ہونا۔ منیع الجانب: مضبوط قوی، زوردار، مستحکم۔ حاجز منیع: دور نہ ہوسکنے والی روک، نا قابل رسائی ناکہ۔ مَناعة: پہنچ سے باہر ہونا، طاقت، استحکام، نا قابل تسخیر ہونا، سختی، دشواری، زور آوری، مضبوطی، مزاحمت کی قوت، بیماری سے چھٹکارا، ڈپلومیٹک آزادی۔ معافی یا استثناء، نا قابل گزر ہونا، دشوار گزاری، مانع دخول ہونا، نا قابل دخول ہونا، نا قابل گزر ہونا۔ اَمنَع: جس تک پہنچنا زیادہ مشکل ہو، زیادہ سخت گیر، زیادہ مزاحمت کرنے والا۔ مانِع جمع موانِع: رکاوٹ، مزاحمت، احتیاطی، محافظ مانع امراض۔ اعتراض جمع مانعات: کٹ آوٹ cut-out (عدم مداخلت کا ایک آلہ)۔ ما رأی مانعا: کوئی اعتراض نہ ہونا۔ لا مانع: راستہ میں کچھ نہیں ہے۔ — عن: مجھے (آپ کو وغیرہ) اس سے کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ ممنوع التدخین: سگریٹ پینا منع ہے۔ ممنوع الدخول: داخلہ کی اجازت نہیں۔

منغنیس: منگنیز (manganese) (شیشہ بنانے کے کام آنے والی ایک دھات)۔

منغولیا: منگولیا (ملک کا نام)۔ مَنفیلا: دھری پھیر، چکر کہنی، گھمیا (crank)۔ مَنَلُوج: تمثیل کا فردی مناظر جس میں ایک اداکار طویل تقریر کرتا ہے (monologue)۔

منو: ا۔ مَنَا یَمنُوا مَنوًا الرجُلَ بکذا: کو سے آزمانا، ایسا شخص جس کو آزمایا جائے، مَمنُوٌّ بکذا کہلاتا ہے۔ المَنَا: پیمانہ یا وزن جو دو رطل کے برابر ہوتا ہے، اس کا تثنیہ مَنَوَان اور مَنَیَان ہے جمع اَمنَاء و اَمنٍ و مُنِیٌّ اسے المَنَاة بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: داری مَنَا داره: میرا گھر اس کے گھر کے سامنے ہے۔ مَنلَة:

ایک بت کا نام جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان تھا اور ہذیل وخزاعہ کے قبائل کا بت تھا۔ المُنْیۃ: خواہش، چاہی ہوئی چیز۔

۲۔ المانویّۃ: ایک مذہب جس کا بانی مانی (۲۱۵......۲۷۶) تھا۔ جو دو مبداؤں کا قائل تھا یعنی مبدأ خیر ومبدأ شر یا نور وظلمت۔

مني:ا۔ مَنَی یَمْنِی مَنْیًا اللّٰہ الخیر لفلان: اللہ تعالیٰ کا کسی کے لئے خیر مقدر کرنا۔ مَنَاہُ ہ: کو آزمانا۔ کہا جاتا ہے: مَنَاہُ اللّٰہُ بکذا: اللہ تعالیٰ نے اس کو فلاں چیز میں مبتلا کیا۔ مُنِیَ لکذا: کو کسی توفیق دیا جانا۔ بکذا: کا سے امتحان لیا جانا، آزمایا جانا۔ مَنّٰی تَمْنِیَۃً الرجلَ الشیءَ و بالشیء: کو کسی آرزو دلانا، رغبت دلانا۔ اَمْنَی اِمْنَاءً الدماءَ: خون بہانا۔ — الحاجُ: حاجی کا منیٰ میں آنا یا اترنا۔ منیٰ مکہ کے پاس ایک جگہ ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہاں خون بہایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے وہ کہتے تھے۔ مَنَی اللّٰہ علیہ الموتَ: اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے موت مقدر کی کیونکہ وہاں مکہ معظمہ میں بھیجی جانے والی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ تَمَنَّی الشیءَ: کا ارادہ کرنا۔ — الکتابَ: کو پڑھنا۔ کہا جاتا ہے: ھذا شیءٌ رویتہٗ أم شیءٌ تمنیتہٗ: یہ چیز تم نے روایت کی یا پڑھی۔ — الرجلُ: جھوٹ بولنا۔ — الحدیثَ: جھوٹی بات گھڑنا۔ اِمْتَنَی اِمْتِنَاءً الشیءَ: بات کو گھڑنا۔ — الحاجُ: حاجی کا منیٰ میں آنا یا اترنا۔ المَنَی: قصد، موت، تقدیر الٰہی۔ آپ کہتے ہیں: انا راضٍ بمَنَی اللّٰہ: میں اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سے راضی ہوں یا اس پر مطمئن ہوں۔ ھو مِنِّی بمَنَی مِیل: میرے اور اس کے درمیان ایک میل کی لمبائی ہے۔ الحَیَوانُ المَنَوِیّ: نر کا مادہ تولید، خلیہ۔ المُنْیَۃ والمِنْیَۃ جمع مُنًی و مِنًی: خواہش، آرزو۔ المَنِیَّۃ جمع مَنَایا: موت۔ الأُمْنِیَّۃ: جھوٹ۔ — جمع أَمانٍ و أَمَانِیّ: خواہش، آرزو۔ المُتَمَنِّیات: تمنائیں۔ مرغوبات۔

۲۔ مَانَی مُمَانَاۃً الرجلَ: کا انتظار کرنا، عذر کر کے ٹالتے رہنا، کو بدلہ دینا، جال میں پھانسنا، دھوکا دینے کی کوشش کرنا۔ — الرفیقَ: ساتھی کے ساتھ باری باری سوار ہونا۔

۳۔ المَنِیهُوْت (ن): ایک پودا جس کی جڑوں سے آٹا نکالا جاتا ہے اور دنیا بھر کے ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے۔

○ مَنَا یَمْنُوا و منی یَمْنِی ہ: کو اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے آزمائش میں ڈالنا، آزمانا، اکسانا، ترغیب دینا یا تکلیف میں ڈالنا۔ مُنِیَ ب: کے ساتھ تکلیف میں ڈالا جانا، کے ذریعے سخت آزمایا جانا، کو جھیلنا، برداشت کرنا، اٹھانا، سے گزرنا، کا تجربہ کرنا، سے متاثر ہونا، کا شکار ہونا۔ — ل: کو خوش قسمتی سے پانا۔ مَنَّی ہ/ب: میں کی خواہش پیدا کرنا، کو کا آرزومند کرنا، کو کی امید دلانا، کو کی امید کی وجہ سمجھانا، میں کی امیدیں پیدا کرنا۔ — ہ ب/ان: سے وعدہ کرنا کہ — مَنَّی نفسَہٗ ب: جی کو کی امید سے خوش کرنا، پوری امید رکھنا کہ۔ أَمْنَی ہ: (خون) بہانا، منی (نر کا مادہ تولید) نکالنا، نکال پھینکنا۔ تَمَنَّی ہ: کی خواہش کرنا، آرزو کرنا۔ — ل ہ: کے لئے کی دعا کرنا۔ اِسْتَمْنَی: جلق لگانا، مشت زنی کرنا۔ مَنًی و مَنِیَّۃ جمع مَنَایا: مقدر، نصیب، تقدیر، قسمت، بخت، موت کا انجام، موت۔ مَنِیّ: منی، نطفہ، مادہ حیات، نر کا مادہ تولید۔ مَنَوِیّ: منی کا، مادہ حیات کا، منی سے متعلق، مادہ حیات سے متعلق۔ مِنًی مذکر و مِنَی مونث: مکہ معظمہ کے قریب منا کی وادی۔ أُمْنِیَّۃ جمع امانٍ و امانی: خواہش، مطالبہ، دعویٰ، آرزو، بخت آرزو (عروج حاصل کرنے کی) تمنا۔ تَمَنٍّ جمع تمنیات: خواہش آرزو، درخواست۔ استمناء: مشت زنی، جلق۔

مہ: اسم فعل مبنی علی السکون: بمعنی رک جا کبھی مَہٍ بھی کہا جاتا ہے۔

مہ: ا۔ مَہَّ مَہًّا الإبلَ: اونٹ کے ساتھ نرمی برتنا۔ مَہَہَ مَہَہًا الشیءُ: نرم ہونا۔ المَہَاہُ: نرمی، طراوت، تازگی، حسن، خوبصورت، سیر وغیرہ کا ساتھی، امید۔ المَہَہُ: سیر وغیرہ کا ساتھی، امید، مہلت، آرام، فرصت۔

۳۔ مَہْمَہَ عن السفر: کو سفر سے منع کرنا، روکنا۔ — فلانًا: کو مَہْ مَہْ کہہ کر ڈانٹنا۔ تَمَہْمَہَ عن الشیء: سے رک جانا، باز رہنا۔ المَہْمَہ والمَہْمَہَۃ جمع مَہَامِہ: دور واقع بیابان، بنجر ملک۔

○ المِنْیا: وسطی مصر کا ایک شہر۔

مہت: المُہْتَر و المِہْتار: حاکم، امیر (فارسی لفظ)۔

مہج: ا۔ مَہَجَ مَہْجًا: بیماری کے بعد کے چہرہ پر رونق آنا۔ — الولدُ امَّہٗ: بچے کا ماں کا دودھ پینا۔ اُمْتُہِجَ الرجلُ: کا خون کھینچ لیا جانا۔ المَاہِج (فا): خالص دودھ، پتلا دودھ یا چربی۔ المُہْجَۃ جمع مُہَج او مُہُجات: خون یا دل کا خون، روح۔ مہجۃ کل شیء: اچھا اور خالص حصہ۔ الأمْہَج و الأُمْہُوج والأُمْہُجان: خالص دودھ۔

۲۔ رجلٌ ممہوج: نفس ڈھیلے پیٹ والا۔

○ مُہْجَۃ جمع مُہَج: خون حیات، دل کا

خون، دل، بالکل اندرونی ذات، باطنی، فطرت، گودا، مغز، روح، زندگی۔ طُعِنَتُ الآمالُ فی مُہْجَتِہا: امیدوں کو موت کا گھونسہ لگا۔

مہد:ا۔ مَہَدَ مَہْدًا الفراشَ: فرش بچھانا — لنفسہ: اپنے لئے کمانا، عمل کرنا۔ مَہَّدَ الفراشَ: فرش بچھانا۔ — الأمرَ: کام یا معاملہ کو درست، آسان اور ہموار کرنا۔ — لہ العذرَ: سے عذر پیش کرنا۔ — لفلان عذرَہ: کا عذر قبول کرنا۔ — لنفسہ خیرًا: اپنے لئے بھلائی مہیا کرنا۔ تَمَہَّدَ الفراشُ: فرش بچھانا۔ — لہ الامرُ: کے لئے کام یا معاملہ آسان ہونا۔ — الرجلُ: قادر ہونا۔ اِمْتَہَدَ الشیءَ: بچھانا۔ — الرجلُ: کمانا، عمل کرنا۔ اِسْتَمْہَدَ فراشًا: فرش بچھانا۔ المَہْد جمع مُہُود: گہوارہ، پست زمین۔ المُہْد جمع مِہَدَۃ و أَمْہاد والمُہْدَۃ جمع مُہَد: نرم وپست وہموار زمین۔ المِہاد جمع مُہُد و مُہُد و أَمْہِدَۃ: فرش، پست زمین۔

۲۔ المَہِید: خالص مکھن۔ ماءٌ مُمَہَّد: درمیانہ پانی، نہ گرم نہ سرد۔

○ مَہَّدَ ہ: کو یکساں وبرابر پھیلانا، کو ہموار کرنا، برابر کرنا، آسان کرنا۔ (سڑک) بنانا، سڑک پر فرش لگانا، کو چپٹا کرنا، کو ترتیب دینا، نمٹانا، سیدھا کرنا، کو ترتیب سے رکھنا، سلیقے یا ترتیب سے لگانا، کو رکاوٹوں سے آزاد کرنا، صاف کرنا، کے لئے راہ ہموار کرنا، (ل صلہ کے ساتھ) — لہ ہ: کے لئے کو آسان بنانا، آسان کرنا، ڈھیلا کرنا، سہل الحصول یا قابل حصول بنانا — ہ: کو تیار کرنا، بستر بچھانا — الکرۃَ ل: گیند کسی کی طرف بڑھانا — ل ب: کے لئے راستہ بنانا، کھولنا، صاف کرنا یا تیار کرنا یا کے ذریعے یا کیساتھ راستہ بنانا، کھولنا، صاف کرنا، تیار کرنا، کو کے ذریعے یا کیساتھ کھولنا، تیار کرنا، شروع کرنا، چلانا، قائم کرنا، کا باعث ہونا، چالو کرنا۔ تَمَہَّدَ: فرش لگایا جانا، صاف ہونا، کھلنا (راستہ)، نمٹایا جانا، ترتیب دیا جانا، اچھی طرح چلنا، واقع ہونا، کا متوقع نتیجہ نکلنا، ترتیب میں ہونا، سلیقے یا قرینے سے لگنا، سیدھا ہونا۔ مَہْد جمع مُہُود: بستر، گہوارہ۔ من المہد الی اللحد: گہوارے سے قبر تک۔ قَتَلَہٗ فی مہدہ: کو ابتداہی میں ختم کر دینا، دل کی کلی نہ کھلنے دینا، گربہ کشتن روز اول۔ کان فی مہدہ ابھی تک آغاز یا بچپن میں ہونا، ابتدائی مراحل سے آگے نہ بڑھا ہونا۔ مِہاد: آرام کی جگہ، بستر، سینہ، دل حدود، گوشہ، باڑہ (جس میں کوئی چیز رہتی ہے)۔ تمہید ال کو آسان کرنے کے لئے، کی تیاری میں، کی طرف

ابتدائی قدم کے طور پر، کی غرض سے۔ تَـمْـهِـيدِی: تمہیدی، ابتدائی، تعارفی، افتتاحی، دیباچہ کے طور پر، آزمائشی، تیار کرنے والا۔ اجـراءاتٌ تَـمْـهِـيدِيَّـة: ابتدائی انتظامات، ابتدائی کارروائیاں۔ حُكْمٌ تَمْهِيدِی: مکالماتی فیصلہ۔ قرارٌ تمهيدی: ہنگامی یا عارضی حکم، عارضی حکم امتناعی۔ شـرحٌ تمهيدی: افتتاحی بیان یا تشریح۔ مُـمَـهَّـد: ہموار کیا ہوا، برابر کیا ہوا، ہموار، برابر، یکساں، خوب ترتیب دیا ہوا، اچھی طرح تیار کیا ہوا، تیار کیا ہوا، صاف کیا ہو یا کھلا (راستہ)، فرش لگی (سڑک) پختہ (سڑک)۔ مُـمَـاهَد: فرش لگی، پختہ، درست کی ہوئی (سڑک)۔

مہر: ۱۔ مَهَرَ ـ مَهْـراً و مُهُوراً و مَهَاراً و مَهَارَةً الشیءَ و فیه و به: میں ماہر ہونا، تجربہ کار یا واقفکار ہونا۔ صفت ماہر۔ کہا جاتا ہے: مَهَرَ فی العلم: وہ علم میں ماہر ہوا اور عالم ہوا۔ فی صناعته: دستکاری میں ماہر ہونا، تجربہ کار ہونا۔ مَـاهَـرَ مُمَاهَرَةً ہٗ فَمَهَرَ ہٗ: سے ماہر ہونے میں مقابلہ کرنا اور اس پر غالب آنا۔ تَـمَـهَّـرَ: ماہر ہونا، حاذق ہونا، تیرنا۔ الـمَـاهِـر جمع مَهَرَة: ماہر و حاذق، اچھا تیرنے والا۔ الإبلُ المَهْرِيَّة جمع مَهَارِی و مَهَارٍ و مَهَارَی: مہران بن حیدان کے، جو یمن کا عرب تھا، اونٹ، کہا گیا کہ ان اونٹوں کی تیز رفتاری میں کوئی چیز ان کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔

۲۔ مَهَرَ ـ مَهْـراً المرأةَ: کو مہر دینا یا اس کا مہر مقرر کرنا۔ أَمْهَرَ المرأةَ: عورت کو مہر دینا یا اس کا مہر مقرر کرنا، کا کسی مرد سے مہر پر نکاح کرنا۔ صفت مفعولی: مَمْهُورَة۔ المَهْر (مص) جمع مُهُور و مُهُورَة: مہر۔ کہا جاتا ہے: هذا مهرُ ذلك: یہ اس کا عوض یا یہ اس کے بدلے میں ہے۔ المَهِيرَة من النساء جمع مَهَائِر: بہت مہر والی عورت۔

۳۔ مَهَرَ: بچھیرا مانگنا یا حاصل کرنا۔ أَمْهَرَتِ الفرسُ: گھوڑی کا بچھیرے یا بچھیری والی ہونا۔ الـمُـهْـر جمع مِهَار و أَمْهَار و مِهَارَة مونث مُهْرَة جمع مُهَر و مُهَـرات و مُهُـرات: بچھیرا، پہلا بچہ (گھوڑی یا گدھی وغیرہ کا)۔ جمع مُهْرَة: سینہ کے بالائی حصہ کی ہڈی۔

۴۔ المُهْر جمع مُهْرَة: حنظل کا پھل (ح) کبوتری کا بچہ۔ مہر، شاہ مپ سیل (فارسی لفظ) مولدوں اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں مَهَرَ الكتابَ: اس نے کتاب پر مہر لگائی۔ المَهْرِيَة: سرخ گیہوں۔

۵۔ المِهْرَجان: پارسیوں کی عید، عظیم جشن۔ مَهْر جمع مُهُور: مہر، قیمت، شرط کا روپیہ، بدی ہوئی

رقم، فدیہ۔ مَهْر دار: مہر کا حامل۔

مہز: مَهَزَ ـ مَهْزاً ہٗ بیده: کو ہاتھ سے دھکیلنا۔

مہش: مَهَشَ ـ مَهْشاً ہٗ: کو جلانا، کو ناخنوں سے کھرچنا۔ اِمْتَهَشَ: جلنا۔

مہص: مَهَصَ الثوبَ: کپڑے کو صاف کرنا، سفید کرنا۔ تَمَهَّصَ فی الماء: پانی میں ڈوبنا۔ اِمْهَاصَّتِ الأرضُ: زمین کا بے نبات ہونا، صفت مَهْصَاء۔

مہق: ۱۔ مَهَقَ ـ مَهْقَاتِ الخیلُ: گھوڑے کا دوڑنا۔

۲۔ مَهَقَ ـ مَهْقاً الفصیلَ: اونٹ کے بچے کو پانی پلانا۔ تَمَهَّقَ الشرابَ: تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شراب پینا۔

۳۔ مَهِقَ ـ مَهَقاً: بہت سفید ہونا۔ المَهَق (مص): پانی پر کی سبزی۔ الأَمْهَق مونث مَهْقَاء جمع مُهْق: بہت سفید۔ المُهْقَة: بہت سفید رنگ۔

مہک: ۱۔ مَهَكَ ـ مَهْكاً ہٗ: کو نرم و چکنا کرنا۔ مَهَكَ الشیءَ: کو باریک پیسنا۔ اِمْهَكَ الرجلُ: کم گوشت والا ہونا۔ مَهْكَةُ الشباب و مُهْكَتُهُ: جوانی کی رونق و تازگی۔ المُهُوك: نرم کمان۔ المُمْهَك و المُتَمَهِّكُ: بھری جوانی والا۔ کہا جاتا ہے: شابٌّ مُمَهَّكٌ: بھری جوانی والا۔ المُمَهَّك: لمبا، کانپنے والا۔

۲۔ مَهَكَ ـ مَهْكاً فی السیر: جلدی جلدی چلنا۔ تَمَهَّكَ فی العمل: کام مناسب طور سے کرنا۔ تَمَاهَكَ القومُ: باہم جھگڑنا۔ اِمْهَكَ فی العدو: تیز دوڑنے کی کوشش کرنا۔

۞ مَهَكَ ـ مَهْكاً: پیسنا، مسلنا، کچلنا، خراش ڈالنا۔ مَهْكَة و مُهْكَة: جوانی کی تازگی، جوانی کا جوبن۔

مہل: ۱۔ مَهَلَ ـ مَهْلاً و مُهْلَةً و تَمَهَّلَ فی العمل: آرام سے جلد بازی کے بغیر کام کرنا۔ مَهَّلَ و أَمْهَلَ ہٗ الدینَ: کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا ــــ الرجلَ: سے نرمی برتنا۔ اِسْتَمْهَلَ ہٗ: کو انتظار کرنے کے لئے کہنا، سے مہلت مانگنا۔ المَهْل (مص): آرام، فرصت، آہستگی۔ کہا جاتا ہے مَهْلاً و عَلَى مَهْلٍ: نرمی سے، جلدی نہ کر، آہستہ کر۔ یہ لفظ مصدر ہے اور اپنے فعل کی جگہ کام دیتا ہے۔ اس کا مذکر، مونث، واحد، تثنیہ اور جمع یکساں ہیں۔ الـمَـهَـل: نرمی، آہستگی، کام شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق رہنمائی حاصل کرنا۔ المُهْلَة (مص): نرمی، آہستگی۔ (کہا جاتا ہے: مَشَى عَلَى مُهْلَتِه: وہ آرام سے چلا) تیاری۔ کہا جاتا ہے خذ المُهْلَة فی أمرك: اپنے کام کی تیاری کرو۔

۲۔ مَهَلَ ـ مَهْلاً الرجلُ: بھلائی میں آگے بڑھنا۔ صفت مَاهِل۔ مَهَّلَ و أَمْهَلَ فی الأمر: میں مبالغہ کرنا، عذر کرنا۔ المَهَل: کسی کے پہلے اسلاف، آگے بڑھنا، سبقت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ ذو مَهَلٍ: فلاں کو خیر میں سبقت حاصل ہے۔ أخذ على فلان المُهْلَة: وہ اس سے عمر یا ادب میں بڑھ گیا۔

۳۔ الـمُـهْـل و الـمَـهْـل: پیپ یا خاص میت کی پیپ۔ الـمُـهْـل: فلذات جیسے چاندی، لوہا، تانبا، پگھلی ہوئی دھاتیں، پتلا قطران، پتلا تیل، زہر، پیپ خصوصاً مردہ کی، روئی سے جھڑی ہوئی راکھ، زیتون کو نچوڑنے کے بعد گرنے والی گٹھلیاں اور چھلکے۔ المُهْلَة: راکھ میں بچی ہوئی چنگاری، پتلا قطران ــــ و المَهْلَة و الـمِهْلَة و الـمُهْلَة: پیپ خصوصاً مردہ کی۔ المُتَمَهِّل من الرجال: لمبا مرد۔

۞ مَهَلَ ـ مَهْلاً و مُهْلَةً فی: میں دیر لگانا، وقت گنوانا، آہستہ ہونا، وقت لینا۔ مَهَّلَ و أَمْهَلَ ہٗ: کو وقت دینا، کو مہلت دینا، تاخیر دینا۔ تَمَهَّلَ: آہستہ ہونا ــــ فی: میں جان بوجھ کر آہستہ بڑھنا۔ تَمَهَّلَ فی خُطَاهُ: سست قدم ہونا۔ تَمَهَّلَ یقولُ: اس نے آہستہ سے کہا۔ تَمَاهَلَ بمعنی تَمَهَّلَ۔ اِسْتَمْهَلَ ہٗ: سے مہلت مانگنا، کو انتظار کرنے کے لئے کہنا۔ مَهْل و مَهَل: سستی، سست رفتاری، آہستگی، آرام، فرصت، مہلت۔ مَهْلاً: سج سج، تامل سے اطمینان سے، آہستہ، عجلت کے بغیر۔ علی مهل: آہستہ، سج سج تامل سے، اطمینان سے۔ بلا عجلت۔ مَهْلَكَ: دلجمعی سے کئے جاؤ، گھبراؤ مت۔ علی مهلك: دلجمعی سے کئے جاؤ، گھبراؤ مت۔ مُهْلَة: مہلت، تاخیر، کسی فیصلہ کیلئے وقت کی حد، پر غور کرنے کا وقت۔ مُهَيْلَة: بڑی کشتی۔ اِمْهَال: مہلت دینا، تاخیر کی رعایت۔ اِمْهَالِی: تاخیر پر مائل، وقت ضائع کرنے والا، دیر لگانے والا، تعطل میں ڈالنے والا۔ تَمَهُّل: آہستگی، سوچ بچار۔ بتمهل: آہستہ، بتدریج۔ مُتَمَهِّل: آہستہ، محتاط، آرام کام کرنے والا، عجلت کے بغیر، مطمئن۔ مُتَمَاهِل: آرام سے کام کرنے والا، آرام دہ، مطمئن، بلا عجلت، آہستہ۔

مہم: مَهْمَا: اسم شرط دو فعلوں کو جزم دیتا ہے غیر ذوی العقول کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

۱۔ ظرف زمان ہے: جیسے مَهْمَا یَزُرْنِی زیدٌ أُكْرِمْهُ: جب کبھی زید میری ملاقات کو آئے گا میں اس کی عزت کروں گا۔

۲۔ غیر ظرف بھی ہے: جیسے مَهْمَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ: جو تو

کرے گا میں کروں گا۔

مہن: مَہَنَ مَہْنًا و مَہْنَۃً و مِہْنَۃً الرجُلَ کی خدمت کرنا۔ مَہَنَ اپنی حرفت میں کام کرنا۔ الرجُلَ کو مارنا، اور سے سختی کرنا۔ الثوبَ: کپڑا کھینچنا، کو بوسیدہ و پرانا کرنا۔ مَہُنَ مَہَانَۃً: حقیر و کمزور ہونا۔ مَہَنَ مَہَانَۃً ۂ: کو کرنا، کی مشق کرنا۔ اَمْہَنَ ۂ: سے خدمت لینا، کو کمزور کرنا۔ اِمْتَہَنَ الشیء: کو حقیر کرنا، بوسیدہ کرنا۔ الرجُلَ: کو نوکر رکھنا۔ وامْتَہَنَ الرجُلُ: نوکری کرنا۔ المِہْنَۃ والمَہْنَۃ والمِہَنَۃ والمَہِنَۃ جمع مِہَن و مُہُن: کام اور خدمت میں مہارت۔ کہا جاتا ہے: قَامَتِ المرأۃُ بمِہْنَۃ بیتہا: عورت نے اپنا گھر درست کیا۔ ما مِہْنَتُكَ ههنا: تمہارا یہاں کیا کام ہے۔ ھو فی مِہْنَۃ اھلہ: وہ اپنے اہل کی خدمت میں مشغول ہے۔ خرج فی ثیاب مِہْنَتِہ: وہ اپنے کام کاج کے کپڑوں میں نکلا۔ الماھِن (فا) جمع مُہَّان و مَہَنَۃ و مُہّان م ماھِنَۃ جمع مَوَاھِن: نوکر، غلام۔ المَہِین جمع مُہَنَاء: حقیر، کمزور، کم سمجھ۔

ج مَہَنَ مَہْنًا و مَہْنَۃً ۂ: کی خدمت کرنا، کو ذلیل کرنا، سے ذلت آمیز سلوک کرنا۔ ہ: کی حیثیت بگاڑنا، کو بے وقعت کرنا، عام خدمت میں تھکا دینا، استعمال سے تھکا دینا۔ مَہُنَ مَہَانَۃً: ذلیل ہونا، فرومایہ ہونا، کمینہ ہونا، نیچ ہونا، خدمتگار، نوکر، یا شاگرد پیشہ ہونا۔ مَاهَنَ ہ: کوئی پیشہ کرنا، کوئی حرفت کرنا۔ اِمْتَہَنَ ہ: کو ذلیل کرنا، سے ذلت آمیز سلوک کرنا، کو سخت سست کہنا، کو ذلیل سمجھنا، کو حقیر جاننا، سے نفرت کرنا، کو خدمت گزاری کے کاموں کے لئے نوکر رکھنا۔ ہ: کی حیثیت بگاڑنا، کو عام خدمت میں تھکا دینا، استعمال سے تھکا دینا۔ ہ: کو پیشہ ورانہ طور پر کرنا۔ مِہْنَۃ جمع مِہَن: کام، پیشہ، شغل، مشغلہ، دستکاری، کاروبار۔ مِہْنِی: پیشہ ورانہ، پیشہ کے انتخاب کے متعلق سود مندانہ طور پر طلازم۔ الارشاد المِہنی: پیشہ کے انتخاب کے متعلق ماہرانہ مشورہ۔ مَہِین جمع مُہَنَاء: حقیر، ذلیل، کمینہ، فرومایہ، قابل مذمت، لائق مذمت۔ اِمْتِہَان: ذلت، خواری، پستی، گراوٹ، تذلیل، شرمساری، حقارت، ہتکی، ناجائز یا غلط استعمال، بدسلوکی، نامناسب سلوک۔ مَاهِن جمع مُہّان: خدمت گزار نوکر۔

مہز: مَہَزَ یَمْہَزُ مَہْزًا الرجُلَ: کو بہت مارنا، کو زور سے مارنا۔

۲ مَہَا یَمْہُو مَہَاۃً البقرۃُ الوحشیۃُ: نیل گائے کا خالص سفید ہونا۔ مَہُوَ یَمْہُو مَہَاوَۃً اللبنُ او السمنُ: دودھ یا گھی کا پتلا ہونا۔ صفت مَہْوٌ۔ اَمْہَی اللبنَ: دودھ میں پانی زیادہ کرنا۔ القِدْرَ: ہانڈی میں پانی زیادہ کرنا۔ الحدیدۃَ: لوہے کو تیز کرنا۔ ت العینُ: آنکھ سے آنسو بہنا۔ القِدْحَ: تیر سیدھا کرنا۔ الفرسَ: گھوڑے کی رسی لمبی چھوڑنا، کو چلا کر گرمانا تاکہ پسینہ آئے۔ اسم المَہْی۔ الحبلَ: رسی ڈھیلی کرنا۔ فلانًا: بہت تعریف کرنا۔ کہا جاتا ہے: حفر البئر حتی اَمْہَی: اس نے کنواں یہاں تک کھودا کہ پانی تک پہنچ گیا۔ المَہْو (مص): سفید کنکری، بہت پانی ملا دودھ، موتی، بلور، اولہ، تازہ کھجوریں، پتلے پھل والی تلوار۔ المَہَاۃ جمع مَہًا و مَہَوات و مَہَیات: بلور، نیل گائے، سورج۔

مہی: مَہَی یَمْہَی و یَمْہِی مَہْیًا الشفرۃَ او الحدیدۃَ: پھل کو تیز یا پتلا کرنا۔ الشیءَ: چیز کو گلٹ کرنا۔ اَمْہَی و امْتَہَی الشفرۃَ او الحدیدۃَ: پھل کو تیز کرنا، پتلا کرنا۔ اَسْتَمْہَی الفرسَ: گھوڑے کو پوری رفتار پر چھوڑنا۔ القومُ: قوم کا دشمن کی صفوں کو چیر کر شکست دینا۔

۲ مَہْیَم: کلمہء استفہام ہے بمعنی تمہارا کیا حال ہے؟، یا تمہیں کیا ہوا؟ یا کیا خبر ہے؟۔

موء: مَاءَ یَمُوءُ مُوَاءً السِنّورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ صفت مَوُوءٌ۔ اَمْوَأَ السنورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ الرجُلُ: بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنا۔ المائیۃ و المائِنَۃ و المائیَّۃ (ح): بلی۔

موب: المُوبَذ و المُوبَذان: (فارسی لفظ) مجوسیوں کا حاکم یا گرو، فلسفی، ماہر تجربہ کار۔

موت: مَاتَ یَمُوتُ مَوْتًا: مرنا، کی روح کا جسم کو چھوڑ کر چلا جانا۔ ت الریحُ: ہوا کا ٹھہرنا۔ ت النارُ: آگ کا بجھنا۔ ت الحمّی: بخار کی تیزی کا کم ہونا۔ الحرُّ او البرد: گرمی یا سردی کا زائل ہونا۔ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ مَوَاتًا و مَوَتَانًا المکانُ: جگہ ویران ہونا۔ الطریقُ: راستے کا چلنا بند ہو جانا۔ کہا جاتا ہے مَاتَ فوق الرَحْل: وہ گہری نیند سو گیا۔ مَوَّتَ ہُ: کو مار دینا۔ مَاوَتَ مُمَاوَتَۃً قِرنَہُ: اپنے مدمقابل سے صبر میں مقابلہ کرنا۔ اَمَاتَ اِمَاتَۃً ہُ: کو مار ڈالنا۔ نفسَہُ: اپنی خواہشات کو مارنا۔ غضبَہُ: غصہ ٹھنڈا کرنا۔ الرجُلُ: مرے ہوئے بچوں والا ہونا۔ ت الناقۃُ او المرأۃ: مرے ہوئے بچے والی ہونا۔ صفت مُمِیت و مُمِیتہ جمع مَمَاوِیت۔ القومُ: قوم کے مویشیوں میں مری پڑنا۔ اللحمَ: گوشت خوب اچھی طرح پکانا اور ابالنا۔ اُمِیتَتِ اللفظۃُ: لفظ کا متروک الاستعمال ہونا۔ کہا جاتا ہے: ما اَمْوَتَہُ: وہ کتنا مردہ دل اور کمزور دل ہے۔ تَمَاوَتَ: جھوٹ موٹ کا مردہ بننا، خاموشی اور کمزوری دکھانا۔ اِسْتَمَاتَ اِسْتِمَاتَۃً و اِسْتِمَاتًا: اپنے لئے موت مانگنا، کسی چیز کی خاطر سب کچھ کرنا۔ الشیءُ: ڈھیلا ہونا۔ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ و پرانا ہونا۔ المائِت: قریب المرگ۔ کہا جاتا ہے مَوْتٌ مَائِتٌ: سخت موت۔ المَوْت: موت۔ الموت الاحمر: مقتول ہو کر مرنا۔ الموت الابیض: طبعی موت یا اچانک موت۔ الموت الاسود: گلا گھٹ کر مرنا۔ المَوْتَۃ: موت۔ المُوتَۃ: دیوانگی، مرگی۔ المَوَات (مص): بے جان چیز، غیر آباد زمین۔ المُوتَان: جانوروں کی وبا یا مری۔ کہا جاتا ہے: ھذا مَوْتَانُ الفؤاد: یہ کند ذہن ہے۔ مؤنث مَوتانۃ۔ المُوتَانُ: جانوروں کی وباء یا مری۔ المَوَتَان: موت۔ ویران زمین، غیر جاندار چیزیں۔ کہا جاتا ہے: اِشتر من المَوَتان ولا تشتر من الحیوان: زمین اور مکان خریدو۔ غلام اور جانور نہ خریدو۔ المَیْت جمع اَموات و مَوْتَی و مَیْتُون والمَیِّت جمع مَیِّتُون: میت، مردہ۔ مؤنث مَیْتَۃ و مَیِّتَۃ و مَیْتَۃ جمع مَیْتَات و مَیِّتَات۔ المَیْتَۃ جمع مَیْتَات: میت کا مؤنث جانور جو طبعی موت مرا ہو یا غیر شرعی طریقہ پر مرا ہو۔ المِیتَۃ: موت کی حالت اور اس کی ہیئت۔ کہا جاتا ہے: مات مِیتَۃً صالِحَۃً: وہ اچھی موت مرا۔ مات مِیتَۃَ سوءٍ: وہ بری موت مرا۔ المَیْتُوتَۃ: موت۔ الاِمَاتَۃ عند المسیحی: بعض کھانوں سے اجتناب، نفسانی خواہشات کو دبانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ المَمَات: موت یا موت کا وقت یا زمانہ۔ المُمَات من اللفظ: متروک الاستعمال لفظ۔ خَطِیئَۃٌ مُمِیتَۃٌ: گناہ کبیرہ، تباہ کن گناہ۔ المُسْتَمِیت (فا): موت کا سامنا کرنے والا، نڈر، پاگل پن کی علامتیں ظاہر کرنے والا مگر پاگل نہ ہو۔

۲ اِسْتَمَاتَ اِسْتِمَاتَۃً و اِسْتِمَاتًا: لاغری کے بعد موٹا ہونا۔

ج مَاتَ مَوْتًا: مرنا، تباہ ہونا، برباد ہونا، زندگی سے ہاتھ دھونا، مردہ ہو جانا، کم ہونا، مدھم پڑنا، فرو ہونا، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا۔ مَوَّتَ و اَمَاتَ ہ: کو مار دینا، فنا کرنا، کو قتل کرنا، مار ڈالنا، کی موت ہونا، کی موت کا باعث ہونا۔ اَمَاتَ نفسَہُ: نفس کشی کرنا، نفس کو مارنا۔ ہ: کو کچل دینا، دبا دینا، ختم کرنا، بے حس کرنا، کا

زور کم کرنا، گھٹانا۔ تَمَاوَتَ: مردہ بننا، مرنے کا تصنع کرنا، جھوٹ موٹ مردہ بننا، کمزوری کا بہانہ کرنا۔ ـــ فی: میں سست ہونا، مٹھا ہونا، ڈھیلا ڈھالا ہونا۔ اِسْتَمَاتَ: موت طلب کرنا، موت کی پرواہ نہ کرنا، موت کو خاطر میں نہ لانا، موت کا مقابلہ کرنا، جان قربان کرنا، زندگی کو خطرہ میں ڈالنا۔ ـــ فی: جان پر کھیل کر یا مایوسی کی حالت میں کیلئے جدوجہد کرنا، کے لئے جان پر کھیل جانے والی کوشش کرنا، جان پر کھیل کر یا مایوسی کی حالت میں لڑنا۔ موت و موتہ: موت مَوَات: بے جان، بے کیف چیز، بنجر، غیر مزروعہ زمین۔ مَيِّت و مَيْت جمع اَمْوَات و مَوْتَى: بے جان، مردہ۔ متوفّی، آنجہانی، مرنے والا۔ مَيْتَة: لاش، نعش، لوتھ، مردار، ایسے جانور کا گوشت جو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ مِيتَة: مرنے کا انداز۔ مِيتَةُ الابطال: ہیرو کی موت، جنگ میں موت۔ مَمَات: جگہ جہاں کوئی مرا ہو۔ موت۔ اِمَاتَة: مارنا، نفس کشی۔ اِسْتِمَاتَة: موت کا مقابلہ۔ ـــ فی: کیلئے جان پر کھیل جانے والی کوشش، کیلئے جان پر کھیل جانے والی جدوجہد۔ مَائِت: مرنے والا، جاں بلب، قریب المرگ، فانی۔ مُمِيت: مہلک، جان لیوا، کاری۔ خطيئةٌ مُمِيتَةٌ: گناہ کبیرہ۔ مُمَات: متروک، غیر مروج، دقیانوسی۔ مستميت: موت کا مقابلہ کرنے والا، غیر محتاط، مردانگی کا، شہید، شہید کی موت جھیلنے والا۔

۞ موتو سیکل جمع موتو سیکلات: موٹر سائیکل۔

موث: مَاثَ يَمُوثُ مَوْثًا و مَوَثَانًا الشيءَ بالشيءِ: ایک چیز کو دوسری میں ملانا، خلط ملط کرنا۔ الشيءَ فی الماء: کو پانی میں حل کرنا، تر کرنا۔ اِنْمَاثَ: خلط ملط ہونا، حل ہونا، تر ہونا۔

موج: مَاجَ يَمُوجُ مَوْجًا و مَوَجَانًا البحرُ: سمندر کا موج مارنا، جوش مارنا۔ ـــ القومُ: قوم کے معاملات کا مضطرب و بے ترتیب ہونا، لوگوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا۔ ـــ عن الحق: حق سے پھر جانا، الگ ہو جانا۔ تَمَوَّجَ البحرُ: سمندر کا موج مارنا، جوش مارنا۔ المَوْج (مص) جمع اَمْوَاج واحد مَوْجَة جمع مَوَجَات: موج، لہر۔ مَوْجَةُ الشباب: آغاز جوانی۔ المَوَجَاتُ المُسْتَقِرَّة (ف): مستقر موجیں۔ المَوَّاج: بہت موجیں اٹھانے والا۔

۞ مَاجَ ـ مَوْجًا و مَوَجَانًا: سمندر کا چڑھنا اترنا، ابھر کر گرنا، بلند ہونا، لہریا ہونا، امنڈ آنا، موجزن ہونا، متلاطم ہونا، سمندر کی لہروں کا چڑھنا اترنا۔ ـــ ب: سے برانگیختہ ہونا، مشتعل ہونا، جوش میں آنا، بے چین ہونا، مضطرب ہونا۔ تَمَوَّجَ: بمعنی ماج نیز تَمَوَّجَ: لہروں کی صورت میں اٹھنا، ہلکورے اٹھنا، (پانی کی سطح پر) ہلکی ہلکی موجیں پیدا ہونا، لہرانا، ہلنا جلنا۔ تَمَاوَجَ: لہرانا، لہریا ہونا۔ ـــ حول: کے گرد لہر یا لکیر بنانا۔ بہنا، چڑھنا، طغیانی میں ہونا، بلند ہونا، امنڈ آنا۔ موج طویل: لونگ ویو (long wave) (ریڈیو)۔ موج قصیر: شارٹ ویو (short wave) (ریڈیو)۔ موج متوسط: درمیانی اور ہلکی لہر (medium wave)۔ امواج صوتية: آواز کی لہریں sound waves۔ امواج مُسْتَمِرَّة: مسلسل لہریں۔ امواج مُضْمَحِلَّة: بتدریج گھٹنے والی لہریں۔ امواج مُنْعَكِسَة: منعکس یا بالواسطہ لہریں۔ موجة حارة: گرم لہر، گرمی کی لہر۔ موجة الشباب: جوانی کا جوبن یا تازگی۔ سَعَةُ الموجة: ارتعاش کا عرض۔ طول الموجة: لہر کی لمبائی۔ موجة استنكار: ناپسندیدگی کی لہر۔ مَوَّاج: لہریا، متلاطم جمع مَوَّاجات: ٹرانسمیٹر (transmitter)۔ تمويج: بالوں کا لہرانا۔ التمويج على البارد: سرد لہر، مستقل لہر۔ تَمَوُّج جمع تموّجات: اہتزاز، لرزش، جنبش، ارتعاش، لہریا ہونا، لہریا حرکت، ہلنا، جلنا۔ تَمَوُّجات صوتية: آواز کی لہریں۔ تموّج الهواء: فضائی ارتعاشات۔ مائج: ہنگامہ خیز، طوفانی، طوفان خیز، طلاطم خیز (سمندر)۔

موخ: مَاخَ يَمُوخُ مَوْخًا الغضبُ: غصہ کا ٹھنڈا ہونا۔

۞ مَوْدَة جمع مَوْدَات: فیشن، سٹائل، فیشن ایبل، جمع ہیٹ فیشن، زنانہ ٹوپیاں۔ على المودة: نئے فیشن کا، فیشن ایبل، عام رواج کے مطابق، مقبول طرز کے مطابق، وضع دار، کسی خاص طرز کا (stylish)۔

۞ مَوْدِل یا مُودِیل جمع مودیلات: ماڈل، نمونہ۔

موذ: المَاذ: خوش طبع، خوش اخلاق۔ المَاذِي: سفید یا عمدہ شہد، ہتھیار، نرم زرہ۔ المَاذِيَة: نرم زرہ، شراب۔

مور: ۱۔ مَارَ يَمُورُ مَوْرًا البحرُ: سمندر کا موجزن ہونا، جوش مارنا۔ ـــ الدمُ على الارض: خون کا زمین پر پھیل کر بہنا۔ ـــ الدمَ: خون کو زمین پر پھیلا کر بہانا۔ ـــ الشيءُ: آگے پیچھے تیزی سے ہلنا۔ ـــ السنانُ في المطعون: نیزے کا زخمی کے بدن میں ہلنا۔ ـــ الترابُ: گردو غبار کا اڑنا۔ ـــ ت الريحُ الترابَ و بالتراب: ہوا کا گردو غبار اڑانا۔ ـــ الصوفُ عن الجسد: جسم پر سے پشم اکھڑنا۔ اَمَارَ الدمَ: خون بہانا۔ ـــ السنانَ في المطعون: نیزہ کو نیزہ زدہ (زخمی) میں ہلانا۔ ـــ ت الريحُ الترابَ: ہوا کا گردو غبار اڑانا۔ تَمَوَّرَ: تردد کی حالت میں آنا جانا۔ ـــ الشَعْرُ: بالوں کا دائیں بائیں ہونا۔ ...... الشيءُ: چیز کا مضطرب ہونا اور جلدی جلدی حرکت کرنا۔ کہا جاتا ہے: تَمَوَّرَ الوبرُ و نحوه عن الدابة: بال یا اون کا جانور کے بدن پر سے گر جانا۔ اِنْمَارَ الشَعْرُ: بالوں کا اکھڑ جانا۔ اِمْتَارَ اِمْتِيَارًا السيفَ: تلوار سونتنا۔ المائر (فا) مونث مَائِرَة جمع مَائِرَات و مَوَائِر: کم عقل آدمی۔ سَهْمٌ مائر: گھس جانے والا ہلکا تیر۔ المَوْر: تیزی، نرم چال، بہت آمد و رفت کا ہموار راستہ۔ المُور: ہوا میں اڑنے والا گردو غبار، مٹی جس کو ہوا اڑائے۔ المُورَة: گری ہوئی اون۔ المُوَارَة: گری ہوئی اون، کسی چیز سے گری ہوئی چیز۔ فنا ہونے والی چیز کا بقیہ۔ المَوَّار: المائر کا اسم مبالغہ۔ ريحٌ مَوَّارَة و ارياح مُوُرٌ: گردو غبار اڑانے والی ہوا یا ہوائیں۔

۲۔ المُور (ح): ایک قسم کی بھیڑ۔

۳۔ مار و ماري: سریانی لفظ بمعنی جناب اکثر عیسائی اولیاء کے لئے مستعمل ہے۔ ولیہ کے لئے مُرْت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

۴۔ المَورَج: گیہوں وغیرہ، گاہنے کا آلہ عوام اسے نورج کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ جو غلہ گاہنے کا آلہ ہے۔

۵۔ المُورِكْس (ح): ایک قسم کی مچھلی جو سرخ رنگ کا سائل خارج کرتی ہے۔ قدماء خصوصا اہل فنیق، اس سے ارغوانی (اودا) رنگ بناتے تھے۔

۞ مَارَ ـ مَوْرًا: ادھر ادھر ہلنا، حرکت کرنا آگے پیچھے یا ایک طرف سے دوسری طرف ہلنا، متحرک ہونا، حرکت میں آنا۔ تَمَوَّرَ: بمعنی مَارَ یمور موراً۔ مَوَّار: رقاص، گھڑی کا رقاص pendulum۔ تَمَوُّر: ہلنا جلنا، جھولنے والی حرکت۔ تمورا: آگے پیچھے، ادھر ادھر۔ المُورَة: موریا Moreal۔ مَوَارْتِزْم: وجع المفاصل، جوڑوں کا درد۔ مورفين: مارفیا، افیم کا ست (morphine)۔ مُورِيْنَة: لکڑی کا شہتیر، ٹیڑھی چھت کا شہتیر۔ جمع موریات۔

موز: ۱۔ المَوز واحد مَوزَة (ن): کیلے کا درخت، کیلا۔ المَوَّاز: کیلے بیچنے والا۔

۲۔ المَوزَج جمع مَوَازِج و مَوَازِجَة: موزہ۔

موس: ۱۔ مَاسَ يَمُوسُ مَوْسًا الرأسَ: سر مونڈنا۔ الماس (عوام ماز کہتے ہیں) ہیرا۔ رجلٌ ماسٌ: جس پر زجر و توبیخ کوئی اثر نہ کرے۔ المُوسَى جمع مَوَاس و مُوسَيَات: اُسترا (مذکر و مونث)۔

۲۔ المُوسِيقَى (ف ج): گانے کا فن۔ بعض گانے کے

آلات پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے (یونانی لفظ) المُوسِیقِی: گانے والا، گویا، موسیقار۔
۳۔ المُوسِلِین سوتی کپڑے کی قسمیں جو باریک اور ملائم ہوتا ہے۔
ⓒ مُوسَی: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سمك موسی: یورپ کی ایک چپٹی مچھلی۔ مُوسَوِی: حضرت موسیٰ سے متعلق۔ موسوی۔ موسْطَرْدَة: رائی، سرسوں، خردل، سرشف، توریا۔ موسکو: روس کے ایک شہر کا نام۔ مُوسِیقَار: مغنی مطرب، نغمہ گر، ماہر موسیقی، موسیقار۔
موش: مَاشَ یَمُوشُ مَوْشًا الکَرْمَ: باقی ماندہ انگور چننا۔ الماش واحد ماشة (ط): اُڑد، گھر کا ادنی قسم کا سامان۔
ⓒ ماش: چھلی دار یا دانوں والا پودہ جس میں سیاہ خوردنی دانے لگتے ہیں۔ ہندوستانی مٹر، سیم۔
موص: مَاصَ یَمُوصُ مَوْصًا الشیءَ: کو ہاتھ سے ملنا...... و مَوَّصَ الثوبَ: کپڑا دھونا۔ المَوْص (مص): بھوسا۔ المُوَاصَة: وہ چیز جس سے کپڑے دھوئے جائیں یا برتن۔
ⓒ المَوْصِل: موصل شمالی عراق کا ایک شہر۔
موصة: دیکھو مودہ بمعنی فیشن، سٹائل۔
موع: مَوْعَةُ الشباب: آغاز جوانی۔
موغ: مَاغَ یَمُوغُ مَوْغًا و مُوَاغًا السنور: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔
موق: ا۔ مَاقَ یَمُوقُ مَوْقًا و مُوقًا و مَوَاقَةً و مُؤُوقًا الرجلُ: غباوت ملا، بیوقوف ہونا، ہلاک ہونا۔ تَمَاوَقَ: حماقت دکھانا۔ اِنْمَاقَ اِنْمِیَاقًا: بیوقوف ہو جانا، بیوقوفوں جیسا کام کرنا۔ المائق جمع مَوْقَی: احمق کہا جاتا ہے: هو احمقُ مائقٌ: وہ بہت احمق ہے۔) ہلاک ہونے والا۔ المُوق (مص) جمع اَمْوَاق: غباوت ملی حماقت۔
۲۔ مَاقَ یَمُوقُ مَوْقًا المبیعُ: ارزاں ہونا (فروخت کا)۔۔۔ الطعامُ: غلہ مندہ ہونا۔
۳۔ المُوق جمع اَمْوَاق: گرد و غبار (ح): پردار چیونٹی، گوشۂ چشم، باریک موزہ پر پہنا جانے والا موٹا موزہ۔
مول: ا۔ مَالَ یَمُولُ مَوْلاً و مُؤُولاً: مال دار ہونا، بہت مال والا ہونا۔۔۔ مَوْلاً ہٗ: کو مال دینا۔ مَالَ یَمَالُ مَوْلاً و مُؤُولاً: مالدار ہونا، بہت مال والا ہونا۔ مَوَّلَ ہٗ: کو مالدار بنانا۔ اَمَالَ اِمَالَةً ہٗ: کو مال دینا۔ کہا جاتا ہے: ما اَمْوَلَہٗ: وہ کتنا مالدار ہے۔ تَمَوَّلَ المالَ: اپنے لئے مال جمع کرنا۔۔۔ و اِسْتَمَالَ: مال حاصل کرنا، بہت مالدار ہونا۔ المال جمع اَمْوَال: مال، دولت، اہل بادیہ کے نزدیک، بھیڑیں، اونٹ، مویشی بکریاں، (مذکر و مونث) کہا جاتا ہے: هو المال و هي المال۔ خرج الی ماله: وہ اپنی اراضی یا اونٹوں کی طرف نکلا۔۔۔ جمع مالة و مالُون: بہت مال والا۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ مالٌ مونث مالة جمع ماله بطور مفرد و مالات: بہت مال والا آدمی۔ المَالِیَّة: دولت اور مال کے متعلق۔ کبھی مال کو بھی کہتے ہیں۔ المَوِّل و المَیِّل: بہت مال والا۔ المُوَیل: مال کی تصغیر، تھوڑی دولت۔
۲۔ المال (ع ح): عدد کا مربع۔ المُول: واحد مُولة (ح): مکڑی۔
ⓒ مَوَّلَ ہٗ: کو امیر بنانا، کو مالا مال کرنا، تو انگر بنانا، کو روپیہ فراہم کرنا، فنانس کرنا۔ تَمَوَّلَ: روپیہ فراہم ہونا، روپیہ لگنا، رقم لگنا، امیر ہو جانا، دولتمند ہو جانا۔ اِسْتَمَالَ: امیر ہو جانا، دولت مند ہو جانا۔ مال جمع اموال: جائداد، جائداد منقولہ، اثاثہ، خانگی سامان، سامان، دولت، امارت، دولتمندی۔ تَمَوُّل زمینداری، تعلقہ، مال، روپیہ پیسہ، آمدنی، یافت، املاک، سرمایہ، مالی وسائل، ٹیکس خصوصاً زمین کا ٹیکس، قابل فروخت حق ملکیت۔ اموال: جائداد، اثاثہ، املاک، جائداد منقولہ، خانگی سامان، سامان، مالی وسائل، ٹیکس۔
ذومال: دولتمند، امیر۔ مال احتیاطی: محفوظ فنڈ۔ مال الاطیان: زمینی ٹیکس۔ مال الحرام: حرام کمائی۔ مال الحکومة: حکومت کے ٹیکس۔ اموال مُقَرَّرَة: براہ راست ٹیکس۔ مال نقلی اور مال منقول: جائداد منقولہ۔ مال ثابت: زمینی جائداد، غیر منقولہ جائداد۔ مال غیر مُتَقَوِّم: تجارتی قدر کے بغیر چیز۔ امین المال: خزانچی۔ بیت المال: خزانہ۔ راس مال: سرمایہ۔ مَالِی: نظام زر کے متعلق، مالی، مالیاتی، روپیہ پیسہ، مال یا سرکاری خزانہ سے متعلق، ماہر مالیات، روپیہ لگانے والا، مالی (سال کا) سرمایہ دار۔ بیت مالی: مالی ادارہ، بنکاری ادارہ۔ تَضَخُّم مَالِیٌّ: افراط زر۔ سنة مالیة: مالی سال۔ غَرَامَةٌ مالیة یا عُقُوبَة مالیة: جرمانہ۔ مَالِیَة: امور متعلقہ نظام زر، روپیہ پیسہ، مال، سرکاری خزانہ، ریاست کی سالانہ مجموعہ آمدنی جو ٹیکسوں وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ (public revenue)۔ محاصل، مالیات، مالی صورت حال، وزارة المالیة: وزارت خزانہ، سررشتہ مال، مُوَّال جمع مُوَّالُون: روپیہ لگانے والا، سرمایہ دار۔ تَمْوِیل: سرمایہ لگانا، ٹیکس ادا کرنا۔ مُمَوِّل جمع مُمَوِّلُون: ٹیکس دینے والا، محصول دینے والا۔ مُمَوَّل: صاحب جائداد، دولتمند، امیر۔ مُتَمَوِّل: امیر، دولتمند، خوشحال، آسودہ حال، سرمایہ لگانے والا، سرمایہ دار۔
مَوَّال جمع مَوَاوِیل: عام بول چال میں اور اکثر و بیشتر بانسری کے ساتھ گائی جانے والی نظم۔ مَوَّالیا: بمعنی مَوَّال۔
موم: ا۔ مِیمَ مَوْمًا الرجلُ: برسام کی بیماری والا ہونا، شدید قسم کی چیچک میں مبتلا ہونا کہ سارا جسم یکسر زخم بن جائے۔ صفت مفعولی مَمُوم۔ المُوم: (طب) برسام یا شدید قسم کی چیچک۔
۲۔ مَوَّمَ مِیمًا: میم (م) لکھنا۔
۳۔ المُوم: موم۔ المَوْمَاء و المَوْمَاة جمع المَوَامِي: وسیع بیابان یا بے آب بیابان۔ المُومِیَاء: ایک دوا۔ قدیم مصریوں کے طریق پر حنوط لگائے ہوئے اجسام۔
ⓒ مُومِیَاء و مُومِیَة جمع مُومِیَات: ممی، حنوط شدہ لاش، مسالہ لگا کر محفوظ رکھی ہوئی لاش۔
مون: ا۔ مَانَ یَمُونُ مَوْنًا و مُؤُونَةً و مَوَّنَ: کسی کا خرچ برداشت کرنا صفت مائن تَمَوَّنَ: اشیائے خوردنی جمع کرنا، بال بچوں پر زیادہ خرچ کرنا۔ المُونَة جمع مُوَن: جمع شدہ اشیاء خوردنی۔ بیتُ المُونَة: کھانے پینے کی اشیاء جیسے گھی تیل وغیرہ جمع کرنے کا کمرہ، اسٹور ہاؤس۔ المَوَّان: ذخیرہ رکھنے والا۔ ذخیرہ فراہم کرنے والا۔
۲۔ مَانَ یَمُونُ مَوْنًا و مُؤُونَةَ الارضَ: کھیتی کے لئے زمین جوتنا۔
ⓒ مَانَ مَوْنًا و مُؤُونَةً و مَوَّنَ ہٗ: کو اشیائے خوردنی مہیا کرنا، کو ذخیرہ فراہم کرنا۔۔۔ ہٗ/ ہ ب: کو کچھ فراہم کرنا۔ تَمَوَّنَ: اشیائے خورد و نوش کا ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، گودام میں رکھنا۔ مُونَة: اشیاء خورد و نوش۔ تَمْوِین: خوراک کی بہم رسانی، ذخیرہ کی فراہمی، بہم رسانی، لبریزی۔
ⓒ موانی: میناء کی جمع دیکھو میناء۔
مُونِیخ: میونخ Munich (ایک شہر کا نام)۔
موہ: ا۔ مَاهَ یَمُوهُ مَوْهًا الرجلُ: کو پانی پلانا۔۔۔ الشیءَ بالشیءِ: کو ملانا، خلط ملط کرنا۔۔۔ یَمُوهُ و یَمَاهُ مَوْهًا و مَاهَةً و مُؤُوهَاتٌ البئرُ: کنویں کا زیادہ پانی والا ہونا۔۔۔ ت السفینةُ: کشتی میں پانی داخل ہو جانا۔ مَوَّهَ المکانُ: جگہ کا پانی والا ہونا۔۔۔ القِدرَ: ہانڈی میں بہت پانی ڈالنا۔۔۔ الشیءَ

بماء الذهب او الفضة و نحوهما: کو گلٹ کرنا یا اس پر سونے چاندی وغیرہ کا پانی چڑھانا۔ ـــ علیه الامرَ او الخبرَ: کو خلاف واقعہ جھوٹا بیان سنانا۔ اَمَاهَ اِمَاهَةً و اَمْوَهَ اِمْوَاهاً الرجلَ: کو پانی پلانا۔ ـــ الحوضَ: حوض میں پانی جمع کرنا۔ ـــ الدواةَ: دوات میں پانی ڈالنا۔ ـــ البئرَ: کنواں کھود کر پانی نکالنا۔ ـــ السکینَ: چھری پر پانی چڑھانا۔ ـــ الشیءَ: کو ملانا۔ ـــ الشیءُ: ملنا۔ ـــ ت السماءُ: آسمان کا بہت پانی برسانا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کا بہت پانی والا ہونا۔ تَمَوَّهَ: گلٹ ہونا۔ ـــ العنبُ: انگور میں رس پڑ کر پکنے کے قریب ہونا۔ ـــ المکانُ بالبقل: جگہ کا سبزہ زار ہونا۔ الماءُ: پانی۔ (اصل مَوَهٌ ہے) تصغیر مُوَیْهٌ ہے۔ نسبت کے لئے مَائِی و مَاوِیّ و مَاهِی جمع مِیاه و اَمْوَاه۔ ماءُ الوَرْدِ و ماء الزهرِ و نحوهما: گلاب وغیرہ کا پانی جو عرق کی شکل میں کھینچا جائے۔ ماءُ الوَجْه او ماء الشباب: چہرے کی رونق، جوانی کی تازگی۔ ماءُ السیف: تلوار کی آب و تاب۔ بنات الماء: پانی سے مانوس یا آبی پرندے۔ مفرد: ابن الماء۔ الماء الازرق (طب): موتیا بند۔ الماه: پانی۔ نسبت کے لئے مَاهِی۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ ماهُ الفؤاد: بزدل اور بیوقوف آدمی۔ الماءَة: پانی تصغیر مُوَیْهَة۔ الماهة (طب): چیچک۔ بئرٌ ماهَةٌ: بہت پانی والا کنواں۔ المائیة من الشجر: رس۔ سیال جس سے درخت کو غذا حاصل ہو۔ الماهِیَة جمع ماهیات: المَاهِی کا مؤنث۔ المَاوِیَّة جمع مَاوِیّ: آئینہ۔ ـــ من الشجر: سیال جس سے درخت کو غذاء حاصل ہو۔ المُوهَة و المُوَاهَة من الوجه: چہرہ کی رونق اور حسن۔ رکیّة مَیِّهَةٌ: بہت پانی والا کنواں۔ الأَمْوَهُ: اسم تفضیل: زیادہ پانی والا۔ کہا جاتا ہے: البئر هذه السنة اَمْوَهُ مِمّا کانت: کنواں اس سال پہلے سالوں سے زیادہ پانی والا ہے۔ المُمَوَّهة (مفع): ناخنہ دار آنکھ۔ التَّمْوِیْه (ا ع): کیموفلاژ: جنگی سامان کو دشمن کی نظروں سے چھپانے کے لئے ان کی ہیئت کی تبدیلی (camouflage)۔

۲۔ المَاهِیَة جمع مَاهیات: ماہانہ تنخواہ۔ مَاهِیَةُ الشیءِ: چیز کی حقیقت۔

○ مَاهَ ۔ مَوْهًا ه ب: کو سے ملانا، خلط ملط کرنا۔ ـــ مَوْهًا و مُؤُوْهًا و ماهَةً: بہت پانی والا ہونا۔ مَوَّهَ: بہت پانی والا ہونا۔ ـــ ه: میں پانی ڈالنا۔ ـــ ه: میں پانی کی آمیزش کرنا۔ ـــ ه: کو پتلا کرنا، کو پانی ملا کر ہلکا کرنا، نرم کرنا، میں کھوٹ ڈالنا، ملاوٹ کرنا۔ ـــ ه/علی: میں جعلسازی کرنا۔ ـــ ه: کو خلاف واقعہ بیان کرنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کے متعلق غلط تصور پیش کرنا، غلط بیانی کرنا۔ ـــ ب علی: کے سامنے تصنع کرنا، کا کے سامنے جھوٹا اظہار کرنا۔ ـــ ه: کو کیموفلاژ کرنا، چھپانا، کی ہیئت بدل ڈالنا، کو دشمن کی نظروں سے چھپانا۔ ـــ ه ب (نکمی دھات) پر (سونے یا چاندی) کا ملمع کرنا۔ اَمْوَهَ ه: میں پانی ملانا۔ ماء جمع میاه و امواه: پانی، سیال، مائع، رس، عرق۔ کالماء الجاری: روانی سے، اچھی طرح، ٹھیک سے، کسی خرابی کے بغیر۔ ماء ابیض: موتیا، موتیا بند۔ ماء الزهر: سنترے مالٹے وغیرہ کے پھولوں کا عرق۔ ماء عَذب: تازہ پانی، نوشیدنی پانی۔ ماء غازی: جمع میاه غازیه: معدنی پانی۔ ماء الکولونیا: یوڈی کلون Eau de cologne: ایک خوشبودار عرق۔ ماء الوجه: عزت، پاس، لحاظ، شرافت، خودداری۔ اراق ماء وجهه: عزت قربان کرنا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، کے لئے موجب رسوائی ہونا۔ بذل ماء وجهه: بمعنی اراق ماء وجهه۔ ماء الورد: عرق گلاب۔ میاهٌ اِقلیمیة: علاقائی پانی۔ میاه الامطار: بارش کا پانی۔ میاهٌ جوفیة: زمین کا پانی۔ میاه ساحلیه: ساحلی پانی۔ بنو ماء السماء: عرب لوگ۔ کاس التمویه: لبریز پیالہ۔ تَمْوِیهی: جھوٹا، مصنوعی، بناوٹی، نقلی جعلی، فرضی، جھوٹ موٹ۔ غارة تمویهة: نقلی حملہ، دھوکے کا داؤ۔

میت: مَاتَ یَمِیتُ مِیتًا: مات یموت موتًا کی طرح بمعنی مرنا۔

میث: ماثَ یَمِیثُ مَیْثًا الشیءَ فی الماء: کو پانی میں حل کرنا۔ مَیَّثَ الشیءَ فی الماء: کو پانی میں حل کرنا۔ ـــ الرجلَ: کو ذلیل کرنا۔ تَمَیَّثَ الشیءُ فی الماء: چیز کا پانی میں حل ہونا۔ ـــ الرجلُ: ذلیل ہونا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کا بارش سے نرم ہونا۔ ـــ ت الحرارةُ: گرمی ٹھنڈی ہونا۔ اِنْمَاثَ اِنْمِیَاثًا الشیءُ فی الماء: چیز کے اجزاء کا پانی میں حل ہونا۔ اِمْتَاثَ الرجلُ: زندگی کا آرام پانا۔ ـــ الأَقِطَ: پنیر کو پانی میں بھگو کر کھانا۔ ـــ الشیءَ فی الماء: کو پانی میں حل کرنا۔ المَیِّث: نرم۔ کہا جاتا ہے شیء و عیش مَیِّثٌ: نرم چیز، خوشگوار زندگی۔ ارضٌ مَیْثَاء: نرم زمین۔ المُسْتَمِیثُ: انڈے کی سفیدی۔

میج: مَاجَ یَمِیجُ مَیْجًا الشیءُ: ملنا، خلط ملط ہونا۔

میح: ۱۔ مَاحَ یَمِیحُ مَیْحًا و مَیْحَةً: پانی سے چلو بھرنا۔ ـــ اصحابَه: ساتھیوں کے لئے چلو چلو پانی لینا۔ ـــ الرجلَ: کو نفع دینا۔ ـــ ه عند الامیر: کی حاکم سے سفارش کرنا۔ کہا جاتا ہے مِحْنِی عند الامیر: حاکم سے میری سفارش کرو۔ ـــ مَیْحًا و مِیَاحَةً ه: کو دینا۔ اِمْتَاحَ الماءَ: پانی سے چلو بھرنا۔ ـــ الرجلَ: سے بخشش طلب کرنا۔ ـــ ه الحرُّ او العملُ: کو گرمی یا کام کا عرق آلود کرنا۔ اِسْتَمَاحَ اِسْتِمَاحَةً ه: سے بخشش مانگنا، یا سفارش کرنے کی درخواست کرنا۔ المَائِح جمع مَاحَة و المُیَّاح: چلو سے پانی پلانے کی درخواست کرنے والا۔

۲۔ مَاحَ یَمِیحُ مَیْحًا و مَیُوحَةً الرجلُ: نخرے اور تکبر سے چلنا۔ ـــ ت الریحُ الشجرةَ: ہوا کا درخت کو جھکا دینا۔ مَیَّحَ تَمْیِیحًا الغصنُ او السکرانُ: ٹہنی کا ہلنا، مخمور کا ڈگمگانا۔ مَایَحَ مُمَایَحَةً ه: سے خلط ملط ہونا۔ تَمَیَّحَ: ناز و انداز سے چلنا، دائیں بائیں جھکنا۔ تَمَایَحَ: ہلنا، ڈگمگانا۔

○ مَاحَ ۔ مَیْحًا و مَیُوحَةً: اکڑ کر چلنا، مصنوعی شان و شوکت کے ساتھ چلنا، مٹکنا، مٹکتے ہوئے چلنا، اٹھلا کر چلنا، بطخ کی چال چلنا۔ تَمَیَّحَ و تَمَایَحَ: ہلنا، ڈگمگانا، لڑکھڑانا، ہلنا، ڈولنا، جھولنا، لہرانا۔ اِسْتَمَاحَ ه: سے اعانت نوازش کرم کی درخواست کرنا۔ ـــ ه: کی درخواست کرنا۔ اِسْتَمَاحَ عُذرًا من: کے لئے معذرت چاہنا۔

مید: الماءُ یَمِیدُ مَیْدًا و مَیَدَانًا: حرکت کرنا، ہلنا، کانپنا، جھوک لگانا، مڑنا، انحراف کرنا۔ کہا جاتا ہے: مادت به الارضُ: زمین اس کے ساتھ گھوم گئی۔ ـــ الغصنُ: شاخ کا جھکنا، ہلنا۔ ـــ الرجلُ: تکبر اور ناز سے چلنا، کا سر چکرانا۔ تَمَیَّدَتِ المرأةُ: عورت کا ناز سے چلنا۔ تَمَایَدَ: چلتے ہوئے لڑکھڑانا۔ المائِد جمع مَیْدَی: جھکنے والا، جس کا سر چکرائے۔ غصنٌ مائِد: جھکنے والی شاخ۔ المائِدة جمع مَوَائِد و مائِدات: مَائِد کا مؤنث۔ زمین کا دائرہ۔ المَیْدَة: مَادَ کا اسم مرۃ۔ المَیَّاد مؤنث مَیَّادَة: بہت ہلنے اور لڑکھڑانے والا۔ المَیْدَان و المِیدان جمع مَیَادِین: کھیل کا میدان۔ گھوڑ دوڑ کا میدان۔ المَیُود: بہت حرکت کرنے والا۔ الاغصُنُ مُیَّدٌ: جھکنے والی یا جھکی ہوئی شاخیں۔

۲۔ مَادَ یَمِیدُ مَیْدًا و مَیَدَانًا الرجلَ: کی زیارت کرنا، کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، پر احسان کرنا۔ اِمْتَادَ اِمْتِیَادًا: بخشش مانگنا۔ کہا جاتا ہے اِمْتَادُوهُ فَمَادَهُم۔

انہوں نے اس سے بخشش مانگی تو اس نے انہیں بخشش دی۔ المَائِدة جمع مَوَائِد و مَائِدات: دسترخوان، کھانا، کھانے کا کمرہ۔ المَیْدَة: کھانا، دسترخوان۔ المُمْتَاد: بخشش مانگنے والا۔

۳۔ مَیدَ: بَیدَ کے معنی میں نادر ہے۔ بوجہ، اس لئے۔ مَیْدَی: کے لئے۔ کہا جاتا ہے فَعَلَهُ مَیدَی ذلك: اس نے یہ اس کی وجہ سے کیا۔ مقابل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: داری بِمَیْدَی داره: میرا گھر اسکے گھر کے مقابل ہے۔ مِیْداء الشیء: قیاس پیمانہ، اندازہ مقدار۔ کہا جاتا ہے: هذا مِیداءُ ذاك و بِمِیْدَائِه: یہ اس کے مقابل ہے۔

ماد ـ مَیداً و مَیَداناً: ہلنا، الٹ ہونا، ہلایا جانا، دھکا لگنا، جھولنا، ڈگمگانا، ڈولنا، مڑنا، دوران سر میں مبتلا ہونا، کا سر چکرانا، کا سر گھومنا۔ مـادَ ب: کو زور سے ہلانا۔ ـــمـادَ: آگے پیچھے جھولنا، ڈگمگانا، ایک طرف سے دوسری طرف ہلنا، ڈولنا، جھولنا، لہرانا۔ مَیْدَة جمع مِیَد: دروازے یا کھڑکی کے اوپر کی چوکھٹ سردل۔ لنٹل۔ مِیْداء: پیمانہ، مقدار، لمبائی، فاصلہ۔ مِیداءَ: کے سامنے، کے مقابل، کے سامنے۔ مَیدان و مِیْدان جمع مَیَادین: مربع، کھلی جگہ، کھلا قطعہ یا خطہ، میدان، اکھاڑا، دنگل، میدان جنگ، مقابلے کا علاقہ، لڑائی کا علاقہ، گھڑدوڑ کا میدان، گھڑدوڑ کا محصور راستہ، کھیل کا میدان، میدان، خیال و عمل کا میدان، لائن، دائرہ عمل۔ مَیدانُ التدریب: فوجی تربیت کا میدان، ملٹری ٹریننگ سنٹر۔ میدانُ الحرب: میدان جنگ۔ میدان السباق: گھڑدوڑ کے مقابلہ کا میدان۔ میدان العمل: میدان عمل۔ میدان القتال: میدان جنگ۔ خرج من میدان العمل: بے روزگار ہونا۔ ظهر فی المیدان: منظر پر نمودار ہونا۔ فی میدان الشرف: نیک نامی کے میدان پر۔ مدافع المیدان: میدانی توپیں۔ مائد جمع مَیْدَی: سرگرانی، قے متلی، بحری سفر کی بیماری میں مبتلا۔ مائِدة جمع مائدات و مَوَائد: میز۔ مائدةُ التشریح: آپریشن کی میز۔ مائدة الزینة: سنگار میز۔ مَائِدَةُ السُّفرة: کھانے کی میز۔ مَدَالِیُون: بڑا تمغہ۔

میر ۱۔ مَارَ یَمِیرُ مَیراً و اَمَارَ عِیالَهٗ: عیال کے لئے کھانا اور اشیاء خورد و نوش لانا۔ مَایَرَ مُمَایَرَةً ہٗ: کے پاس خوراک لانا۔ اِمْتَار لعیاله او لنفسه: اپنے عیال کے لئے یا اپنے لئے خوراک اور اشیاء خوردنی جمع کرنا۔ المائر جمع مُیَّار و مَیَّارَة فا: خوراک لانے والا۔ المِیْرَة (مص) خوراک کھانا۔ کہا جاتا ہے: ما عندهم خیرٌ ولا مَیر: ان کے پاس نہ تو دنیا ہے نہ آخرت۔ المِیرَة جمع مِیَر: ذخیرہ کی ہوئی خوراک۔ المَیَّار: ذخیرہ کی ہوئی خوراک لانے والا۔

۲۔ مَارَ یَمِیرُ مَیْراً الصوف: اون دھنا...... الدواء و نحوهٗ: دوا وغیرہ پگھلانا۔ اَمَارَ الصوفَ: اون دھنا۔ ـــ الدواء و نحوَهٗ: دواء پگھلانا۔ ـــ اوداجه: کی رگیں کاٹنا۔ المُوَارَة: دھننے میں اون کا گرا ہوا حصہ۔

۳۔ مَایَرَ مُمَایَرَةً ہٗ: کی نقل اُتارنا۔

۴۔ مَایَرَ مُمَایَرَةً ہٗ: کی مخالفت کرنا۔ تَمَایَرَ تَمَایُراً ما بین القوم: قوم میں فساد پڑنا۔

مَارَ ـ مَیْراً و اَمَارَ عیاله: اپنے کنبہ کا خرچ چلانا۔ مِیْرَة جمع مِیَر: اشیاء خوردنی، رسد، ذخیرہ، سٹور۔ مَیَّار: بہم رساں، خانساماں یا ہوٹل کا مالک یا ناظم، اشیاء خوردنی بہم پہنچانے والا ٹھیکیدار۔ مِیْرِی: (امیری) پبلک، حکومتی، حکومت یا ریاست کا، مالی۔ المِیری: حکومت، خزانہ، خزانہ عامرہ۔ مالُ المِیری: گورنمنٹ کے ٹیکس۔ اَملاکُ المیری: حکومت کی زمین۔ میر آلای: کرنل colonel۔ مِیرلواء: بریگیڈیر جنرل۔ مِیر جمع اَمْیَار: میئر (mayor) میر بلدیہ، صدر بلدیہ۔ مَیْرُون: متبرک تیل، روغن جو مذہبی رسموں میں ملا جاتا ہے۔

میز ۱۔ مَازَ یَمِیزُ مَیْزاً الشیءَ: کو علیحدہ کرنا، جدا کرنا، کو دوسری چیزوں پر ترجیح دینا ـــ فلانٌ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ مَیَّزَ و أَمَازَ الشیءَ: کو دوسری چیز سے علیحدہ کرنا، جدا کرنا، کو دوسری چیزوں پر ترجیح دینا۔ تَمَیَّزَ: دوسروں سے جدا ہونا ـــ فلانٌ من الغیظ: غصہ سے پھٹ پڑنا۔ تَمَایَزَ القومُ: بچھڑ جانا، مختلف گروہوں میں بٹ جانا، دھڑے بند ہونا، طرف داری کرنا، جانبداری کرنا، متحد ہونا، حریف ہونا، رقیب ہونا، مقابلہ میں حصہ لینا، مقابلہ کرنا۔ اِنْمَازَ انمیازاً: جدا ہونا۔ اِمْتَازَ اِمْتِیَازاً: دوسروں سے علیحدہ ہونا، جدا ہونا ـــ القومُ: ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ اِسْتَمَازَ: دوسروں سے علیحدہ ہونا، پرے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ المَیْز و المَیِّز: مضبوط پٹھوں والا۔ الاِمْتِیَاز (مص) جمع امتیازات: پروانہ، سند، لائسنس، حق۔ التَّمییز: مَیَّزَ کا مصدر۔ ایک قوت نفسانی جس سے معانی کا استنباط ہو۔ نحو کا ایک باب۔ سِنّ التمییز: سمجھ کی عمر، برائی بھلائی پہچاننے کی عمر۔ مُمَیِّز السعادة: مساوات کا مُمیز۔

۲۔ المیزاب: پرنالہ جمع میازیب۔ نالی، گندہ نالہ، بدرو۔ اِنْصَحَتْ میازیبُ السماء: آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔

مَازَ ـ مَیْزاً بَین: دو چیزوں کو علیحدہ کرنا، علیحدہ رکھنا۔ ـــ ہٗ: کو ممتاز کرنا، کی عزت کرنا، کا احترام کرنا، کو اعزاز عطا کرنا، سے ہمدردی کرنا۔ مَیَّزَہٗ: کو اعزاز عطا کرنا۔ ـــ ہ عن/علی: کو پر ممتاز کرنا، کی سے زیادہ تعریف کرنا، کا سے زیادہ احترام کرنا، کو سے زیادہ پسند کرنا ـــ ہ/ہ عن: میں سے فرق کرنا، امتیاز کرنا، کو سے الگ کرنا، علیحدہ کرنا، سے نمایاں کرنا ـــ ہ/ہ علی: کو پر ترجیح دینا۔ ......ہ/ہ: کو علیحدہ کرنا، جدا کرنا، کو چن لینا۔ ......ہ: کو خصوصی حق یا مراعات دینا، کو استحقاق بخشنا۔ ـــ ہ/ہ/عن/من: سے فرق کرنا، کو سے علیحدہ کرنا، جدا کرنا، کا سے فرق کرنا ـــ بین: دو چیزوں کو علیحدہ کرنا، جدا کرنا، ایک کو دوسری چیز سے علیحدہ کرنا، جدا کرنا۔ اَمَازَ ہ: میں امتیاز قائم کرنا، پر نشان کرنا، کو علامت بنانا، کو ترجیح دینا۔ تَمَیَّزَ: علیحدہ ہونا، جدا ہونا، نمایاں ہونا، ممتاز ہونا، فرق ہونا، قابل ترجیح ہونا، احترام کیا جانا، مہربانی کیا جانا۔ تَمَیَّزَ غَیظاً: غصہ سے پھٹ پڑنا۔ تَمَایَزَ فی: میں نمایاں خصوصیت رکھنا، مختلف ہونا۔ اِمْتَازَ ب/فی/عن/علی من: سے میں پر کے مقابلہ میں نمایاں و ممتاز ہونا، ـــ ب: سے متصف ہونا، سے نمایاں بنایا جانا ـــ عن/علی: پر سبقت لیجانا، بازی لیجانا، سے بڑھ جانا، سے بہتر کام کرنا ـــ علی: پر فوقیت رکھنا، پر ترجیح رکھنا، پر ترجیح دیا جانا، کو زیادہ پسند کیا جانا ـــ من/علی: فی/ب: سے میں مختلف ہونا۔ مَیْز: امتیاز، تمیز، فرق، ہمدردی کرنا، ترجیح، برتری، سرفرازی۔ مِیْزَة: انفرادیت، خاصہ، خاصیت، امتیازی و نمایاں خصوصیت، مخصوص نشان، لازمی خاصہ، خصوصیت، وصف، خصوصی اختیار۔ اَمْیَز علی: سے بہتر۔ محکمة التمییز: عدالت تنسیخ۔ من غیر تمییز: نادانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر، ذہن میں کوئی معین مقصد کے بغیر۔ اخرجه عن دائرة التمییز: کو اس کے واضح فیصلہ سے محروم کرنا، کا ہوش سلب کر لیا۔ امتیاز جمع امتیازات: امتیاز، عزت (کا نشان)، فوقیت، فائدہ، حق، استحقاق، فرق، شعور، خاص حق، امتیازی حق، رعایت، مراعات، پیٹنٹ (patent) پرمٹ، لائسنس، حق شہریت، خصوصی اختیار، اولیت کا حق۔ الامتیازات الاجنبیة (مغربی طاقتوں کی مشرق میں) مخصوص مراعات۔ الامتیازات الدبلوماسیة.

سفارتی مراعات۔صاحب الامتیاز: مراعات کا حامل۔اخبار کا ذمہ دار طابع۔درجة ممتازة: خاص درجہ۔دیون ممتازة: ترجیحی قرضے۔عدد ممتاز: کسی رسالے وغیرہ کا خاص شمارہ۔میزانین: گیلری۔

میس: ا۔ مَاسَ یَمِیسُ مَیسًا و مَیَسانًا و تَمَیَّسَ الرجُلُ: ناز ونخرہ سے چلنا۔صفت مائِس و مَیَّاس و مَیسان و مَیُوس۔ مَیَّسَ الثوبَ: کپڑے کا دامن بنانا۔المَیس: کجاوہ۔دو بیلوں کے درمیان کی لمبی لکڑی۔المَیَّاس (ح): شیر (ح)۔بھیڑیا۔ المَیسان جمع مَیاسِین: بہت تیز چمکنے والا ستار

۲۔المَیس: ایک قسم کی کشمش۔واحد مَیسة (ن): ایک قسم کا درخت۔اس کا پھل کھایا جاتا ہے۔لیکن پسند نہیں کیا جاتا، آرائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔

مَاسَ: ادھر ادھر حرکت کرنا، دائیں بائیں ہلنا۔تکبر اور لچک سے چلنا۔تَمَیَّسَ: ناز ونخرہ سے چلنا۔ مَیس: تکبر کی چال، متکبرانہ، ڈھنگ یا طرز عمل۔مِیس جمع اَمیاس: ہدف، نشانہ۔مَیَّاس: متکبرانہ چال سے چلنے والا، اکڑ کر چلنے والا۔مَیس الضباط: فوجی افسروں کا طعام خانہ (officers mess)۔

میش: مَاشَ یَمِیشُ مَیشًا الشیءَ بالشیء: ایک چیز کو دوسری سے ملانا۔ــــ الناقةَ: اونٹنی کا نصف دودھ دوہنا۔ــــ الخبرَ: کچھ خبر بتانا، کچھ چھپانا۔کہا جاتا ہے۔ماشوا الارضَ مَیشةً: وہ زمین سے گذرے۔ الماش: اس کیلئے دیکھو موش۔

میط: ا۔مَاطَ یَمِیطُ مَیطًا و مَیَاطانًا عن کذا: سے دور ہونا، ہٹنا۔کہا جاتا ہے: مِط عَنّا یا فلانُ: اے فلاں شخص ہم سے دور ہو جا۔ــــہُ و مَاطَ بہ: کو ہٹانا دور کرنا، لیجانا۔ــــ الرجُلُ: ظلم کرنا۔کہا جاتا ہے: مَاطَ عَلَیَّ فی حکمه: اس نے اپنے فیصلہ میں مجھ پر ظلم کیا۔ــــ فلانًا: کو ڈانٹنا، دور کرنا۔ــــ الشیءُ: جانا۔مَیَّطَ تَمیِیطًا بینهما: دو باتوں یا معاملوں میں پس وپیش کرنا، ہچکچانا، تامل کرنا۔مَایَطَ بین الشیئین: ترجیح دینا۔اَمَاطَ إماطةً عن کذا: سے ہٹنا، دور ہونا۔ــــہُ: کو ہٹانا، دور کرنا، لے جانا۔تَمَایَطَ القومُ: قوم کے درمیان فساد واقع ہونا۔ایک دوسرے سے دور ہونا۔المِیاط: ڈانٹ، دور کرنا، جھکاؤ، ادبار، تباعد۔أصبَحوا فی هباط و میاطٍ: وہ آنے جانے اور گھبراہٹ میں ہیں۔المَیَّاط: بازی گر، بیکار، ناکارہ۔

۲۔کہا جاتا ہے: ما عنده مَیط: اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔اِمتَلأ حتی لا یجد مَیطًا: وہ بھر گیا یہاں تک کچھ اور نہ پایا۔امرٌ ذو مَیطٍ: سخت بات یا معاملہ۔

اَمَاطَ اللثامَ عن: کو افشا کرنا، ظاہر کرنا، فاش کرنا، کا انکشاف کرنا، منظر عام پر لانا۔

میع: ا۔مَاعَ یَمِیعُ مَیعًا الشیءُ: زمین پر پھیل کر بہنا۔ــــت ناصیةُ الفرس: گھوڑے کے پیشانی کے بالوں کا لمبا ہونا۔ــــ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔ــــ و تَمَیَّعَ و تَمَیُّعًا و انْمَاعَ إنمِیاعًا السمنُ: گھی کا پگھل کر بہنا۔صفت مائع مؤنث مائِعة: کہا جاتا ہے: الفضة تَتَمَیَّعُ فی البوتقة: چاندی کٹھالی میں بہتی ہے۔مَیَّعَ تَمیِیعًا الغازَ: گیس کو سیال صورت میں بدلنا۔اَمَاعَ إمَاعًا و إمَاعَةً الشیءَ: کو بہانا۔المائع: بہنے والی چیز سیال۔المائِعة جمع مَوَائِع: مائع کا مؤنث: گھوڑے کی پیشانی کے بال، خوشبودار گوند۔المَیعة: زمین پر گرائی چیز کا بہنا، خوشبودار گوند۔المَیعة السائِلة: لوبان، ایک خوبصورت درخت جو دوا سازی میں استعمال ہوتا ہے۔مَیعَةُ الشیء: اول شی، اصل شی۔مَیعَةُ الشباب: آغاز جوانی۔میعة الفرس: گھوڑے کی دوڑ کا شروع۔کہا جاتا ہے: الفرس فی میعة جَریِه: گھوڑا دوڑ کے آغاز میں ہے۔

۲۔المائع: احمق۔

مَاعَ ــ مَیعًا: بہنا، پھیلنا، پگھلنا، حل ہونا۔مَیَّعَ ہ: کو نرم کرنا، پتلا کرنا، پانی کی طرح کرنا۔اَمَاعَ ہ: کو پگھلانا، پانی کی طرح کرنا۔تَمَیَّعَ و اِنمَاع: پگھلنا، حل ہونا۔مَیع: بہنا، رواں ہونا، روانی، بہاؤ، سیال ہونا، پتلا پن۔مُیعَة: خوشبودار گوند، آغاز جوانی، ناز برداری، فرمانبرداری، ناپائداری، تزلزل۔مُیُوعَة: سیال حالت، ناپائداری، تزلزل۔اِمَاعة: پگھلانا، پانی کی طرح کرنا۔تَمَیُّع: پگھلنا، ترقیق۔مائع: سیال، مائع، نصف سیال، مبہم غیر واضح (عبارت): غیر فیصلہ شدہ، متذبذب، زیر سماعت، غیر متعین (صورت حال)۔

میکا: ابرق۔میکانی: مکینیکل، مشینی، کلدار، میکانیکا: مکینکس mechenics۔میکانیکی: خودکار مشینی، کلدار، مشین دار، کاریگر۔میکروب جمع میکروبات: جرثومہ۔میکروفون جمع میکروفونات: آواز رساں michrophone۔

میل: ا۔مَالَ یمیلُ مَیلًا و تَمیَالًا و مَیَلانًا و مَیلُولةً و مَمَالًا و مَمِیلًا إلی المکان: جگہ کی طرف مڑنا، ــــ الی الشیء او الشخص: سے رغبت کرنا، محبت کرنا۔عن الطریق: راستہ سے تجاوز کرنا، راستہ کو چھوڑ دینا۔الحائطُ: دیوار کا جھکنا۔الحاکم فی حکمه: حاکم کا فیصلہ میں ظلم وناانصافی سے کام لینا۔ــــ علیهم الدهرُ: پر زمانہ کا مصائب وحوادث لانا۔ــــ بفلان: پر غالب آنا۔ــــ الشیءَ: کو جھکانا۔کہا جاتا ہے فلانٌ لا تمیل علیه المِربَعَةُ: وہ قوی ہے۔ــــ مُیُولات الشمسُ: سورج کا ڈھلنا اور ڈوبنے کے قریب ہونا۔ــــ النهارُ او اللیلُ: دن یا رات کا ختم ہونے کے قریب ہونا۔مال بنا الطریقُ: راستہ ہمارے لئے لمبا ہو گیا۔مَیِلَ ــ مَیَلًا: پیدائشی کج ہونا۔صفت أمیل۔مَیَّلَ تمییلًا الشیءَ: کو جھکانا۔ــــ فی الامر: میں شک کرنا۔ــــ بین الامرین: دو کاموں میں پس وپیش کرنا۔مثلاً کہتے ہیں قَرَّبَ له طعاما میل فیه لقلته: اس نے اسے کھانا پیش کیا تو وہ اس کی کمی کی وجہ سے متردد ہوا کہ اسے کھائے یا چھوڑے (عوام مَیَّلَ کو مال کے معنی میں استعمال کرتے ہیں)۔مَایَلَ مُمَایَلَةً ہُ: پر حملہ کرنا، پر جارحیت کرنا، کی طرف مائل ہونا، سے محبت کرنا۔کہا جاتا ہے: مَایَلَنا الملکُ فمایَلنَاہُ: بادشاہ نے ہم پر جارحیت کی تو ہم نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ــــ ہ: کی مدد کرنا۔ــــ بین الشیئین: کے مابین ترجیح دینا۔أمَالَ إمالةً الشیءَ: کو جھکانا۔ــــ یدہ بالفرس: گھوڑے کی لگام ڈھیلی کرنا۔ــــ القاریءُ: قاری کا پڑھنے میں امالہ کرنا۔ــــت المرأة: عورت کا نقاب اتارنا۔تَمَیَّلَ تَمَایُلًا فی مشیه: ناز ونخرے سے چلنا۔تَمَایَلَ فی مشیه: ناز ونخرے سے چلنا۔ــــ الجُلُّ عن الفرس: جھول کا گھوڑے سے ہٹ جانا۔کہا جاتا ہے: بین القوم تمایُل: لوگوں میں اختلاف وفساد ہے۔اِستَمَالَ إستِمَالَةً: مائل ہونا۔کہا جاتا ہے: مَیَّلَهُ فاستمال: اس نے اسے مائل کیا تو وہ مائل ہو گیا۔ــــ فلانًا و بقلبه: کا دل جیتنا، کی ہمدردی حاصل کرنا، تائید حاصل کرنا، کو طرف دار بنانا، ملا لینا، منانا، راضی کرنا۔ــــ ما فی الوعاء: جو کچھ برتن میں ہو اس کو لے لینا......الطعَامَ و نحوهُ: کھانے وغیرہ کو دونوں کف یا ذراع سے ناپنا۔المائِل جمع مُیَّل و مالَة مؤنث مائِلَة جمع مائلات و مَوَائِل (فا): المَیَّال م مَیَّالة: بہت جھکنے والا۔الإمَالة (مصدر) امَال فی القراءة: فتح کو کسرہ کی طرف اور الف کو یاء کی جانب جھکانا۔الأمیَل م مَیلاء: اسم تفضیل، زیادہ مائل، کج عمارت وغیرہ، زین سے ایک طرف کو جھکنے والا، بزدل۔المَیلاء: أمیَل کا

مؤنث: ریت کا ٹیلہ۔ شجرة میلاء: گنجان درخت

۲۔ المِیل جمع أمیال و أمیُل و مُیُول: سرمہ لگانے کی سلائی۔ جراح کا زخم ناپنے کا آلہ۔ میل کا پتھر، نظر کی حد، چار ہزار ہاتھ کا فاصلہ۔ المیل الهاشمي: ایک ہزار ہاتھ کا فاصلہ۔ المِیلَة جمع مِیَل: وقت زمانہ۔ کہا جاتا ہے: الدهرِ مَیلٌ: زمانہ گردشوں والا ہے۔

(ن) إستَمالَ ہ: کو جیتنا ــ القلوبَ: دلوں کو جیتنا۔ ہ: کو اپنی طرف کھینچنا، کو ہمنوا بنا لینا، کو ساتھ ملا لینا، کی محبت جیتنا۔ مَیل جمع مُیُول و أمیَال: رغبت، میلان، جھکاؤ، موڑنا، پھیرنا، موڑ، انحراف، ترچھاپن، کجی، ڈھلوان، ڈھلان ــ الی کی محبت، چاہ، سے لگاؤ، سے ہمدردی، خواہش، آرزو و تمنا، اشتیاق، إلی: کی طرف میلان، رجحان، جھکاؤ۔

مین: ا۔ مَانَ یَمِینُ مَینًا: جھوٹ بولنا صفت مائِن و مَیَّان ۔ تَمَایَنَ القومُ: ایک دوسرے پر جھوٹ بولنا۔ المَین جمع مُیُون: جھوٹ۔ کہتے ہیں: اکثر الظنون مُیُون: اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں۔ ما هُوَ إلاّ کذبٌ و مَینٌ: یہ صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ مُتَمَایِنُ الود: جھوٹ اور دھوکہ کی دوستی والا۔

۲۔ مَانَ یَمِینُ مَینًا الارضَ: زمین کو کھیتی کے لئے جوتنا۔ المان: ہل کا پھل یا پھالہ۔

۳۔ المِینا جمع مَوَانٍ و مَوَانی: بندرگاہ (یونانی لفظ)۔ المِینَاء جمع مَوَانٍ و مَوَانی: بندرگاہ، آبگینہ، (فارسی لفظ)۔

(ن) مِینا و مِیناء: شیشے کا روغن، شیشے کا روغن کرنا، مینا کاری، گھڑی کا ڈائل۔ مَطلِی بالمیناء: مینا کاری کیا ہوا۔ میناء جویّة: ہوائی اڈہ۔

میہ: مَاهَ یَمِیهُ مَیهًا و مَیهَةً السیفَ وغیرہ بماء الذهب: تلوار وغیرہ پر سونے کا پانی چڑھانا ــ فُلانًا: کو پانی پلانا ــ ت البئرُ: کنویں کا بہت پانی والا ہونا ــ مَیهَةً و مَاهَةً و مَیهًا الرکیّةَ: کنویں کے پانی کو زیادہ کرنا۔ المَاهَة والمَیهَة: کنویں کے پانی کی بہتات۔ الأمیَه: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے: البئرُ أمیَهُ مما کانت: کنواں پہلے سے زیادہ پانی والا ہے۔

میي: مَيّ و مَيّة و مَيّا: عورتوں کے نام۔

ن

ن تلفظ (نون)۔ حروف تہجی کا پچیسواں حرف اور حروف ابجد میں ۵۰ سے عبارت ہے۔ مفرد نون کی اقسام: تاکید کے لئے: اس کی دو قسمیں ہیں (۱) خفیفہ ساکن (۲) ثقیلہ مفتوح۔ جو دونوں فعل کے ساتھ مختص ہیں۔ جیسے لیکونَنَّ من الصاغرین اور ولا تحسبنَّ اللّٰہ غافلا: اس کے ذریعے فعل ماضی کی تاکید نہیں کی جاتی۔ امر کی تاکید کی جاسکتی ہے۔ جہاں تک مضارع کا تعلق ہے تو اس کی تاکید مندرجہ ذیل صورتوں میں واجب ہے۔ (۱) جب قسم کے جواب میں واقع ہو اس صورت میں قسم اور مضارع کے لام میں فاصلہ نہیں ہونا چاہئے۔ نیز ضروری ہے کہ فعل مثبت اور مستقبل ہو جیسے تاللہ لاکیدن اصنامکم: جب جواب قسم ہو اور مذکورہ شرائط نہ پائی جائیں تو تاکید ممتنع ہے۔ دوسری صورتوں میں تاکید اور عدم تاکید ہر دو روا ہیں۔ لیکن طلب میں تاکید زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) نونِ تنوین: یہ اسم کے آخر میں نون ساکنہ زائد ہوتا ہے۔ پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا جیسے کتابٌ (کتابُن)۔

(۳) نونِ تانیث: یہ یا تو خفیفہ مفتوحہ ہوتا ہے جو فعل کے ساتھ لاحق ہوتا ہے جیسے: ضَربْنَ و یَضرِبْنَ اضْرِبْنَ: اور یہ ضمیر ہے یا وہ نون مشدّدہ مفتوحہ ہوتا ہے اور مؤنث پر دلالت کرنے کے لئے ضمیروں کے ساتھ متصل ہو کر آتا ہے۔ جیسے: غلامُکُنَّ و مِنھُنَّ و ضربھُنَّ اور حرف ہوتا ہے۔

(۴) نونِ وقایہ: یہ یائے متکلم سے پہلے آتا ہے، جیسے ضربَنی و اِنّنی۔

(۵) نونِ زائدہ: اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو فعل مضارع کے ساتھ لاحق ہوتا ہے جب کہ ضمیر تثنیہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ جیسے یضربان و تضربان۔ یا ضمیر مونث مخاطب کے ساتھ متصل ہو، جیسے تَضْرِبین، یا جمع مذکر کے ساتھ جیسے: یَضْرِبُونَ و تَضْرِبُون: اس صورت میں مثنی میں مکسور اور باقی جگہ مفتوح ہوتا ہے۔ دوسرا زائد نون جو اسم مُثَنّٰی کے ساتھ ملحق ہوتا ہے اور مکسور ہوتا ہے۔ جیسے الزیدانِ اور جمع مذکر کے ساتھ اور مفتوح ہوتا ہے جیسے: الزیدونَ۔

نا: ضمیر جمع متکلم ہے اور رفع نصب اور جر میں مشترک ہے، جیسے رَبَّنَا اننا سمعنا۔

نا: انَأَنا نَأْنَأَةً عن الامر: کے ناقابل ہونا۔ فی الرأی: رائے میں کمزوری ہونا، بے پرواہ ہونا۔ صفت: نَأْنَأٌ و نَأْنَاءٌ و نُؤْنُوءٌ: یعنی عاجز۔ بزدل۔ فلاناً: کو اس کام سے جو وہ کرنا چاہتا ہے، روکنا۔ تَنَأْنَأَ عن الامر: کے ناقابل ہونا۔ فی الرای: رائے میں کمزور ہونا۔

۲۔نَأْنَأَ نَأْنَأَةً فُلاناً: کو اچھی غذا دینا۔

نات: نَأَتَ ۔نَأْتاً و نَئِيتاً: گریہ وزاری کرنا۔ الرجُلَ: سے حسد کرنا۔

نأث: نَأَثَ ۔نَأْثاً و مَنْأَثاً عنہ: سے دور ہونا، دیر لگانا۔ الرَّجُلُ: کوشش کرنا۔ انْتَأَثَ اِنْتِئاثاً: کو دور کرنا۔ کہا جاتا ہے نسعی سعیاً نأثاً: وہ سست چال چلا۔ سیرٌ مِنْأَثٌ: سست اور آہستہ چال۔

◯ نَابُلُس: (مغربی اردن کا ایک شہر) نَابُلِی یا نَابُولِی: نیپلز (جنوبی اٹلی کی بندرگاہ)۔

ناج: انَأَجَ ۔نُؤُوجاً فی الارض: ملک میں جانا۔

۲نَأَجَ ۔نُؤُوجاً الأمرَ: معاملہ کو پیچھے ڈالنا۔

۳نَأَجَ ۔نَئِيجاً الی اللّٰہ فی الدعاء: بوقت دعا خدا تعالٰی کے آگے گریہ وزاری کرنا۔ تِ الریحُ: ہوا کا تیز ہونا۔ تِ الریحُ الموضعَ: کسی جگہ سے ہوا کا تیزی اور شدت سے گزرنا۔ ۔نَأْجاً و نُؤَاجاً الثورُ: بیل کا آواز نکالنا۔ نَئِجَ القومُ: قوم کو سخت ہوا لگنا۔ النائِجَة جمع نائجات: سخت وتند ہوا۔ النَأّاج: بہت آواز نکالنے والا، تیز۔ رجُلٌ نَأّاجٌ: بلند آواز آدمی۔ رِيحٌ نَؤُوجٌ جمع نَوَائِج: تیز چلنے والی ہوا۔ النَئِيج (مص): کہا جاتا ہے للریح نَئِيجٌ: ہوا سائیں سائیں کرتی گزرتی ہے۔ المَنْؤُوج (مفع): حدیثٌ مَنْؤُوج: پیچیدہ بات۔

۴نَئِجَ ۔نَأَجاً: آہستہ کھانا۔

◯ نَارَجِيل: ناریل (اسم جمع) نَارَجِيلَة: (واحد): ناریل، حقہ۔

ناد: نَأَدَ ۔نَأْداً ہُ: سے حسد کرنا۔ تہُ الداھیةُ: پر مصیبت نازل ہونا۔ تِ الارضُ: زمین کا بہت چشموں والی ہونا۔ النَأد و النَأدی و النؤُود: مصیبت۔

نار: نَأَرَ ۔نَأْراً ت نَائِرَةٌ فی الناس: لوگوں میں ہیجان ہونا۔

النَؤُور: چربی کا دھواں۔

◯ نَارِدِين: ایک پودا جس سے خوشبودار روغن نکلتا ہے۔

نَارَنج: تلخ مالٹا۔ نَازی: نازی۔ ہٹلر کی جرمنی کی نیشنل سوشلسٹ پارٹی کا رکن۔ نَازِيَة: نازیت۔

ناش: انَأَشَ ۔نَأْشاً و تَنَأّشَ الشیءَ: کو پکڑنا، پر گرفت کرنا۔ انْتَأَشَہُ اللّٰہُ: اللہ کا کسی چیز کا خاتمہ کرنا، جڑ سے اکھاڑنا۔ النَؤُوش: طاقت ور، غالب

۲نَأَشَ ۔نَأْشاً الامرَ: کو موخر کرنا۔ الشیءَ: کو دور کرنا۔ تَنَأّشَ: پیچھے رہنا، دور ہونا۔ الامرَ: معاملہ کو پیچھے ڈالنا، موخر کرنا۔ الشیءَ: کو دور کرنا، کو دور سے لینا۔ انْتَأَشَ: پیچھے رہنا، دور ہونا۔ فلاناً: کو

ست اور آہستہ پانا۔ النَّيئِيش: بعید، دور۔ کہا جاتا ہے: فَعَلَهٗ نَيِيشًا: اس نے اسے آخر میں کیا۔ جاءَ نَيِيشًا: وہ دیر سے آیا۔ اِتَّبَعَهٗ نَيِيشًا: وہ اس سے پیچھے رہ گیا پھر جلدی میں اس کے پیچھے چلا تا کہ وہ اسے طرح نہ دے جائے۔

۳۔ نَاش ـُـ نَاشًا و تَنَاءَش هُ اللّٰهُ: اللہ کا کسی کو زندہ کرنا اور بلند کرنا۔ ـــ الرجُلُ من مکانه: اپنی جگہ سے اٹھنا۔ اِنْتَأش الشیءُ فلاناً: کو جلدی میں ڈالنا۔ بغنمه: بکریوں کے ساتھ کوچ کرنا۔

○ ناس: مرد، لوگ، عوام۔ نَاسُوت: انسانی خو، طبیعت یا فطرت، انسان دوستی۔

ناف نَافَ ـُـ نَافًا فی الامر: کسی کام کی کوشش کرنا۔ ـ نف ـُـ نَافًا و نَأَفًا من الشراب: سے سیراب ہونا۔ ـ الرجُلَ: سے نفرت کرنا۔ ـ الشیءَ: کو کھانا۔

نال نَأَلَ ـِـ نَأَلًا و نَئِيلًا و نَأَلَانًا الفرسُ: گھوڑے کا ہل ہل کر چلنا۔ صفت: نَؤُول۔ ـــ الرجُلُ: سر اٹھا کر ہلاتے ہوئے چلنا۔ ـ فلاناً: سے حسد کرنا۔

نام: نَأَمَ ـِـ نَئِيمًا: آہستہ کراہنا، رونا۔ ـــ ت القوسُ والاَسَدُ والظبيُ: کمان، شیر اور ہرن کا آواز کرنا۔ النَّأْمَة: نَأَم کا اسم مرۃ، نغمہ، آواز۔ کہا جاتا ہے: أَسكتَ اللّٰهُ نَأْمَتَهٗ: اللہ اسے موت دے۔

○ نَأَمَ ـَـ نَأْمًا: آواز نکالنا، بجنا، گونجنا، کھنکنا؛ کراہنا، ہائے ہائے کرنا، آہ وزاری کرنا، آہیں بھرنا۔ نَأْمَة: آواز، شور، لہجہ، لب ولہجہ، سُر۔

نای: اِ نَأَى يَنْأَى نَأْيًا فلاناً و نَأَى عن فلان: سے دور ہونا۔ صفت: نَاءٍ م نَائِيَة۔ ـ النُّؤْيَ للخیمة: خیمہ کے گرد کھائی کھودنا۔ نَاءَى مُنَاءَاةً الرجُلَ: کو دور کرنا۔ ـــ الشرَّ عن فلان: سے برائی دور کرنا۔ أَنْأَى فلاناً عنه: کو سے دور کرنا۔ ـــ النُّؤْيَ للخیمة: خیمہ کے ارد گرد کھائی کھودنا۔ تَنَاءَى تَنَائِيًا: دور ہونا۔ اِنْتَأَى اِنْتِئَاءً: دور ہونا۔ ـــ النُّؤْيَ للخیمة: خیمہ کے گرد کھائی کھودنا، بنانا۔ النَّائِي: بعید۔ النَّأْي و النُّؤْي و النِّئْي و النُّؤَى جمع نَاء و اَنْآء و نُئِيّ و نِئِيّ: سیلاب کو روکنے کے لئے خیمہ کے گرد بنائی ہوئی کھائی۔ المُنْتَأَى: دور جگہ۔

۲۔ النای جمع نایات (مو): بانسری (فارسی لفظ)۔

○ نَأَى ـَـ نَأْيًا عن: سے دور ہونا، سے دور رہنا، سے فاصلہ پر رہنا، سے علیحدہ رہنا، سے دور چلے جانا، سے تجاوز کرنا، انحراف کرنا، سے غیر حاضر ہونا، کو چھوڑنا، چھوڑ دینا، چھوڑ جانا۔ نائی ٥/٥ عن: کو سے دور رکھنا، کو سے فاصلہ پر رکھنا؛ کے درمیان ، ...... وسیع فاصلہ رکھنا۔ اَنْأَى ہ عن: کو سے دور کرنا، دور لیجانا، کو سے فاصلہ پر رکھنا۔ تَنَاءَى: ایک دوسرے سے دور ہونا، فاصلہ پر ہونا، علیحدہ ہونا۔ ـــ عن: سے دور رہنا، علیحدہ رہنا، سے فاصلہ پر ہونا۔ اِنْتَأَى عن: سے دور ہونا، فاصلہ پر ہونا، سے دور چلا جانا، سے تجاوز کرنا، غیر حاضر ہونا، کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ نَأْي: دوری۔ نَأْي و نُؤْي جمع آناء و انآء: کھائی، خندق۔ انْأَى: زیادہ دور، زیادہ فاصلہ پر۔ مَنْأًى: دور افتادہ جگہ۔ کان بمَنْأًى عن: سے دور ہونا، سے علیحدہ رہنا، سے باہر ہونا، میں ملوث نہ ہونا، سے کسی قسم کے تعلق کا انکار کرنا۔ تَنَاءٍ: بہت فاصلہ، دوری۔ ناءٍ: دور، بہت دور، فاصلہ پر، بعید، پرے کا، دور افتادہ، غیر معمولی دور، الگ تھلگ، گوشہ گزینی یا عزلت گزینی کا۔

نب: انَبَّ ـِـ نَبًّا و نَبِيبًا و نُبَابًا التیسُ خاصةً: مینڈھے کا جوش کے وقت آواز نکالنا۔ النَّبَّة: نَبَّ کا اسم مرۃ۔

۲۔ نَبَّبَ تَنْبِيبًا النباتُ: پودے کا پوریوں والا یا گانٹھ دار ہونا۔ تَنَبَّبَ الماءُ: پانی کا بہنا۔ الأُنْبُ بمعنی الأُنْبُوب جمع أَنَابِيب: بانس نرکل یا نیزے کا پورا۔ بانس نرکل کی طرح ہر گول جوف دار چیز۔ اُنْبُوبُ الماء: پانی کی نالی۔ ـــ من الشجر: درختوں کی قطار۔ اُنْبُوبُ الکوزِ: کوزہ کی ٹونٹی۔ اَنَابِيبُ الرئة: پھیپھڑے کی سانس لینے کی نالیاں۔ الأُنْبُوبَة: بانس یا نرکل کا پورا۔

۳۔ النَّبَّة: بدبو۔

○ اُنْبُوب و اُنْبُوبَة جمع أَنَابِيب: گرہ دار تنے یا ڈنڈی کا جوڑ۔ دو گانٹھوں یا گرہوں کے درمیان کا حصہ، پورا۔ نلکی، نلی، ٹیوب، پائپ، نل، بڑی نالی، بڑی نالی کا پائپ، بڑا مسام۔ ٹیوب (جیسے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب) روشنی کا قمقمہ، بلب۔ اُنْبُوبُ الرئة: نرخرا، سانس کی نالی (windpipe)، ہوا کی نالی (trachea)۔ اُنْبُوبُ الطوربید: تارپیڈو ٹیوب۔ اُنْبُوبٌ مُفَرَّغ: خلا ٹیوب vacuum tube (ریڈیو)۔ خطُّ الأنابیب: پائپ لائن۔ اُنْبُوبِي: نلکی کا سا، نلکی نما، نلکیوں والا، ٹیوب کی شکل کا، پائپ کا (مرکبات میں)۔

نبأ: اِنَبَأَ ـَـ نَبْأً: آہستہ آواز نکالنا۔ ـــ نَبْأً و نُبُوءًا الشیءُ: بلند ہونا۔ ـــ علی القوم: پر ظاہر ہونا، کو اچانک پالینا۔ ـ الشیءُ: دور ہونا۔ کہا جاتا ہے نَبَأَ سمعي عن کذا: میرے کان نے اس سے نفرت کی۔ میرے کان نے اس سے گریز کیا، میں نے اس سے کنی کترائی۔ ـ من ارض إلی ارض: ایک زمین سے نکل کر دوسری زمین کی طرف جانا۔ نَبَّأَ تَنْبِئَةً و تَنْبِيئًا فلاناً الخبرَ و بالخبر: کو خبر دینا، آپ کہتے ہیں: نَبَّأْتُ زیداً عمراً خارجاً: میں نے زید کو عمر کے نکلنے کی اطلاع دی۔ نَابَأَ مُنَابَأَةً: ایک دوسرے کو خبر دینا۔ ـــ القومَ: قوم سے دور ہو جانا، قوم کے پڑوس کو چھوڑ جانا۔ أَنْبَأَ فلاناً: کو اپنے سے دور ہٹانا، کو ایک زمین سے دوسری زمین کو نکال دینا۔ ـــ فلاناً الخبرَ و بالخبرِ: کو خبر دینا۔ تَنَبَّأَ تَنَبُّؤًا: نبوت کا دعوی کرنا، غیب یا مستقبل کے متعلق گفتگو کرنا۔ اِسْتَنْبَأَ الرجُلَ: سے خبر دریافت کرنا۔ النَّبَأ: خبر کی تفتیش کرنا۔ النَّابِي (فا): ٹیڑھی بلند جگہ۔ رجُلٌ نَابِئٌ و سیلٌ نابیءٌ: غیر متوقع یا پردیسی آدمی، اچانک آنے والا سیلاب۔ النَّبَأ جمع أَنْبَاء: خبر (کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے)، پراسرار آواز، کتوں کی آواز۔ النُّبُوءَة و النُّبُوَّة: اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر غیب کی بات بتانا، پیشین گوئی کرنا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے متعلق باتیں بتانا۔ النَّبِیءُ: ٹیڑھی بلند جگہ، واضح راستہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا۔ ـــ والنَّبِيُّ جمع نُبَآء و نَبِيُّون و أَنْبِئَاء و نُبَّاء م نَبِيئَة و نَبِيئَات: اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی بنا پر غیب کی باتیں بتانے والا، پیشین گوئی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے متعلق خبریں دینے والا، نسبت کے لئے نَبَوِيّ تصغیر نُبَيِّئ۔

○ نَبَأَ ـَـ نَبْأً و نُبُوءًا: بلند ہونا، اونچا ہونا، باہر کو نکلا ہوا ہونا، نمایاں ہونا، ممتاز ہونا۔ ـــ علی: کو زیر کرنا، پر قابو پانا، کو قابو میں لانا، کو گھیرے میں لے لینا، کو کچل ڈالنا۔ ـــ عن: سے دور ہو جانا، ہٹ جانا، چلے جانا، پیچھے ہٹنا، کترانا؛ سے پیچھے ہٹتا جانا، پسپا کیا جانا، بیزار ہو جانا، دل کھٹا ہونا، برگشتہ ہونا، صدمہ پہنچنا، رنجیدہ ہونا۔ نَبَّأَ عن/ب: کو کی خبر دینا، اطلاع دینا، سے کا اعلان کرنا، کو کچھ بتانا، کو کا مشورہ دینا، کو کی نصیحت کرنا، کو کے متعلق آگاہ کرنا۔ ـــ عن: کا ثبوت ہونا، کی گواہی یا شہادت ہونا: کو دکھانا، بتانا، ظاہر کرنا، واضح کرنا، کا انکشاف کرنا، کو منظر عام پر لانا۔ أَنْبَأَ ہ ب: کو کی خبر دینا، اطلاع کرنا، کو کی اطلاع دینا، کو کا اعلان کرنا، کو کے بارے میں بتانا، کو کے متعلق آگاہ کرنا۔ تَنَبَّأَ ب: کی پیشین گوئی کرنا، کی پیش گوئی کرنا، آنے والے (خطرے وغیرہ) کا نشان ہونا۔ تَنَبَّأَ: نبوت کا دعوی کرنا، اپنے آپ کو نبی ظاہر کرنا۔ اِسْتَنْبَأَ: سے خبر یا

معلومات دریافت کرنا، کو پوچھنا، کا حال پوچھنا، کے بارے میں استفسار کرنا۔ نَبَأ جمع أَنْبَاء: خبر، اطلاع، معلومات، اعلان، رپورٹ۔ وِکَالَةُ الانبَاء: خبر رساں ایجنسی۔ مَکْتَبُ الأَنباء: خبررساں ایجنسی۔ نَبَاة: ہلکا شور، نیچی آواز۔ نُبُوءَة جمع نبوءات: پیشین گوئی، غیب دانی، الہامی گفتگو، پیغمبرانہ قابلیت۔ اِنْبَاء جمع اِنْبَاءات: نوٹیفکیشن، اطلاع، خبر، خبررسانی، مکتوب، مراسلہ۔ تَنَبُّؤ جمع تَنَبُّؤات: پیشین گوئی، پیش گوئی۔

نبت: نَبَتَ ـُ نَبْتًا و نَبَاتًا المکانُ: جگہ کا سبزی والا ہونا۔ ـــ البَقْلُ: سبزی کا زمین سے پھوٹنا۔ ـــ نَبْتَةً و نَبَاتًا الانسانُ: جوان ہونا۔ کہاجاتا ہے: نَبَتَ فلانٌ فی مَنْبَتِ صدق: وہ ایسے لوگوں کی اولاد ہے جو سچائی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ـــ نُبُوتًا ثَدْیُ الجاریة: لڑکی کے پستانوں کا ابھرنا۔ نَبَّتَ الشجرَ: پودے لگانا۔ ـــ الحبَّ: غلہ بونا۔ ـــ الصبیَّ: بچہ کی پرورش کرنا۔ انبتَ الغلامُ: لڑکے کا جوان ہونا۔ ـــ المکانُ: جگہ کا سبزہ اُگانا۔ ـــ البقلَ: سبزی کا اُگنا۔ ـــ اللّٰهُ البقلَ: اللہ تعالیٰ کا سبزی اگانا۔ صفت مَنْبُوت: (خلاف قیاس) تَنَبَّتَ الشیءُ: چیز کا ظاہر ہونا۔ النابِت (فا) نئی اگی ہوئی سبزی وغیرہ۔ النابتة: النابت کا مؤنث: انسانوں اور مویشیوں کے بچے۔ کہاجاتا ہے: ان بنی فلان لَنَابِتَةُ شر: فلاں قبیلہ کے لوگ برائی کی نسل ہیں۔ النَّبْتُ (مص) جمع نُبُوت: سبزی واحد نَبْتَة۔ النَّبَات (مص) واحد نَبَاتَة جمع نَبَاتَات و أَنْبِتَة: جو کچھ زمین اگائے جیسے درخت، پودے، بیلیں، گھاس وغیرہ۔ علم النبات: علمِ نباتات (botany)۔ النَّبَاتِی: نبات کی طرف نسبت، نباتات کا ماہر۔ النَّبُّوت جمع نَبَابِیت: درخت کی شاخ، موٹا ڈنڈا۔ التَّنْبِیت (مص) تَنَابِیت: درخت، پودا، درخت خرما کی چھانٹی ہوئی شاخیں۔ المَنْبِت: اگنے کی جگہ۔ المِنْبَات: بہت نباتات والی جگہ۔ الیَنْبُوت جمع یَنَابِیت واحد یَنْبُوتَة (ن): خشخاش کا پودا، (ن): خروب (carob) کا درخت۔

○ نَبَتَ ـِ نَبْتًا: اُگنا (خصوصاً پودوں کا، دانتوں کا)؛ کونپل پھوٹنا، (زمین کا) پودے پیدا کرنا، روئیدگی دینا، بالیدگی دینا۔ نَبَّتَ ہ: کو بونا، کا بیج دینے سے لگنا، کا بیج بونا۔ اَنْبَتَ ہ: بیج اگانا، کی کونپل پھوٹنے کا باعث بننا، کو اگوانا، کو اگانا، بونا (فصل) اگانا، پیدا کرنا۔ اِسْتَنْبَتَ ہ: پودے لگانا، اگانا، (جراثیم) پالنا۔ نَبْت: پھوٹنا، اگانا، پھوٹنا، اگنا، نشوونما، اگی ہوئی چیز، سبزی کا اُگنا، نباتات، پودے، روئیدگی، بالیدگی، جڑی بوٹی، سبز چارہ، گھاس، کونپل، پودا۔ قُوَّةُ النَّبْتِ: اگنے کی قابلیت یا صلاحیت۔ نَبْتَة: پودا، کونپل، نئی کونپل، نئی شاخ، پنیری، ننھا پودا۔ نبات (اسم جنس) پودے، روئیدگی، بالیدگی، نباتات، سبزی جمع نَبَاتَات: پودا، نباتی نظام، جڑی بوٹی، نرم پتوں کے پودے۔ نبات اقتصادی: اقتصادی پودا۔ نباتُ الزینة: زیبائشی یا آرائشی پودا۔ نبات طِبّیّ: صحت بخش یا طبی حیثیت سے مفید پودا۔ آکل النبات: چرندہ، سبز چارہ کھانے والا جانور۔ نَبُّوت جمع نبابیت: ڈنڈا، ونڈا، لوہے کی شام کا بھاری ڈنڈا، لٹھ، عصا۔ مَنْبَت و مَنْبِت جمع مَنَابِت: شجرزار، باغ، پودے، درخت، پودوں کا قطعہ زمین، نرسری، پوداگھر، کیاری جو کھاد کے خمیر سے گرم کی جائے، جائے پیدائش، اصل سرچشمہ، منبع، اصل، جڑ، ماخذ۔ تَنْبِیت: پودے لگانا، کاشت، کاشتکاری، کیاریوں میں بیج بونا۔ اِسْتِنْبَات: پودے لگانا، کاشت، کاشتکاری، اُگانا۔ نابِتَة: پودا۔ مُسْتَنْبَت: کاشت کیا ہوا، اگا ہوا، اُگایا ہوا، پیدا کردہ، بڑھایا ہوا، شجرزار، باغ، پودے، درخت، نرسری، پودے لگانے کی زمین، پودوں کا قطعہ زمین، کاشت کاری۔ مُسْتَنْبَتُ البکتریا: جراثیم پالنا۔

نبث: نَبَثَ ـُ نَبْثًا البئرَ: کنواں کھود کر مٹی نکالنا۔ ـــ التراب: مٹی کو کنویں وغیرہ سے نکالنا۔ ـــ فلانٌ: غضبناک ہونا۔ ـــ عن السرّ او الأمر: کسی بھید یا معاملہ کی چھان بین کرنا۔ کہاجاتا ہے: فلانٌ یَنْبُثُ عن عیوب الناس: فلاں شخص لوگوں کے عیب ظاہر کرتا رہتا ہے۔ تَنَابَثَ القومُ: آپس میں بحث کرنا۔ کہاجاتا ہے: لایزالون یتنابثون عن الاسرار و یتباحثون عن الاخبار: وہ ابھی تک بھیدوں کی چھان بین اور خبروں پر بحث کر رہے ہیں۔ ـــ التراب: مٹی کو کنویں وغیرہ سے نکالنا۔ ـــ الشیءَ: کولینا۔ اِسْتَنْبَثَ عن السرّ: بھید کی تحقیقات کرنے میں کوشش کرنا۔ النَّبْث جمع أنباث: نشان، کھوج۔ النَّبِیث: شریر۔ کہاجاتا ہے: ھو خبیث نبیث: وہ خبیث اور شریر ہے۔ النَّبِیثَة جمع نَبَائِث: کنویں، دریا وغیرہ سے نکالی ہوئی مٹی۔ بھید۔ کہاجاتا ہے: ظھرت نبائثُھم ولم تخفَ خبائثُھم: ان کے بھید ظاہر ہو گئے اور برے کام چھپے نہیں رہے۔ نَبِیثَةُ السبع: ضرورت کے وقت تک دفن شدہ گوشت۔ الأُنْبُوثَة: بچوں کا ایک کھیل جس میں وہ کوئی چیز مٹی میں چھپا دیتے ہیں۔ جو اسے ڈھونڈ لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔

نبج: ۱۔ نَبَجَ ـُ نَبِیجًا: سخت آواز اور کلام والا ہونا صفت: نَبَّاج۔ النَّابِجَة: مصیبت۔ النُّبَاج: ریح، ریاح، گوز، پاد۔ نُبَاجُ الکلب: کتے کے بھونکنے کی آواز۔ کَلْبٌ نَبَّاج و نُبَاجِی: بھونکنے والا کتا۔ النَّبَّاجَة: نَبَّاج کا مؤنث: سرین، چوتڑ۔ النَّبْجَان جمع نِبَاج: دھمکی۔

۲۔ نَبَجَ ـُ نُبُوجًا القَبَجَةُ: چکور یا تیتر کا اپنے سوراخ سے نکلنا۔ اَنْبَجَ: اونچے ٹیلہ پر بیٹھنا۔ تَنَبَّجَ و انْتَبَجَ العظمُ: ہڈی کا سوجنا۔ النَّبَجَة: ٹیلہ۔ النَّبَاج: ناکارہ آدمی۔ النِّبَاج: اونچے ٹیلے۔

۳۔ أَنْبَجَ: بولنے میں ہچکچانا۔ النَّبَّاج: جھوٹا۔ المِنْبَج: جھوٹے وعدے کرنے والا۔

۴۔ الأَنْبَج (ن) آم کا درخت، آم۔

نبح: ۱۔ نَبَحَ ـَ نَبْحًا و نُبُوحًا و نَبِیحًا و نُبَاحًا و نِبَاحًا و تَنْبَاحًا الکلبُ: کتے کا بھونکنا، صفت: نَابِح جمع نَوَابِح و نُبَّح و نُبُوح: کہاجاتا ہے: نبحه الکلب و نبح علیه: کتا اس پر بھونکا۔ النُّبَاح: کتے کی آواز کیلئے ہے، دوسرے جانوروں مثلاً ہرن اور بکرے کی آواز پر بھی بولا جاتا ہے۔ ـــ الشاعرُ: ہجو کرنا۔ کہاجاتا ہے: نَبَحَتْنِی کلابُکَ: مجھ تک تمہاری گالیاں پہنچیں۔ ـــ ـَ نُبَاحًا الهُدْهُدُ: زیادہ عمر ہونے والا ہونے کے سبب ہد ہد کی آواز کا بھاری ہونا۔ نَابَحَ مُنَابَحَةً الکلبُ: پر کتے کا بھونکنا۔ أَنْبَحَ و اِسْتَنْبَحَ ہ: کو بھونکانا۔ کہاجاتا ہے: اِسْتَنْبَحَ الاضیافُ کلبَھُم: مہمانوں نے اپنا کتا بھونکایا۔ المُسْتَنْبِح: کتوں کو بھونکانے والا یعنی رات کو آنے والا۔ النَّبَّاح واحد نَبَّاحَة: بہت بھونکنے والا۔ کَلْبٌ نَبَّاحِیٌّ: بڑا اور بہت بھونکنے والا کتا۔ النُّبُوح (مص): لوگوں کا شور وغل اور ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں۔ یہ نابح کی جمع ہے۔ ظَبْیَةٌ نَبْحَاء: بہت چلانے والی ہرنی۔ المَنْبُوح: جس کو گالی دی گئی ہو۔

۲۔ النَّبَّاح واحد نَبَّاحَة: سفید سیپی جو تعویذ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے نظر بد لگنے سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔

○ نَبَحَ ـَ نَبْحًا و نُبَاحًا و نِبَاحًا و نَبِیحًا علی: پر بھونکنا، چلانا۔ تَنَابَحَ: ایک دوسرے پر بھونکنا، بیک وقت یا ساتھ ہی بھونکنا، ایک دوسرے کے بھونکنے کا

جواب دینا (کتوں کا عموماً رات کو)۔ نَبَح و نُبَاح و نِبَاح و نبیح: بھونکنا، بھونکنے کی آواز۔ نَبَّاح: بھونکنے والا، کتے کی طرح چلانے والا۔

نبخ: ۱۔ نَبَخَ ـ نُبُوخًا العجینُ: آٹے میں خمیر اٹھنا۔ أَنْبَخَ العَجَانُ: خمیر اٹھانا۔ ـــ الرجُلُ: نرم زمین میں کھیتی کرنا۔ النَابِخَة جمع نَوَابِخ: تکبر اور سختی سے بولنے والا۔ النَبْخ والنَبَخ: چھالا، آبلہ۔ النَبَّاخ و الأَنْبُخان من العجین: آٹے کا پھولا ہوا، ترش خمیر۔ الأَنْبَخ: مرد سخت اندام، بہت مٹی۔ الأَرْضُ النَبْخَاء جمع نَبَاخَی: اٹھی ہوئی بلند زمین، نرم زمین۔

۲۔ النَبْخ و النَبَخ: جسم پر آگ کے نشانات۔ النُبْخَة و النُبْخَة: بردی (کاغذ) جسے کشتیوں کی تختیوں کے درمیان رکھتے تھے۔ ماچس کی تیلی، ذرہ، ذرہ بھر۔ النَابِخَة جمع نوابخ: دور افتادہ زمین۔ الأَنْبَخ: مٹیالے رنگ کا۔

نبذ: نَبَذَ ـ نَبْذًا الشيءَ: کو پھینک دینا۔ ـــ الأَمرَ: کو نظر انداز کرنا۔ ـ العهدَ: عہد توڑنا۔ کہا جاتا ہے: نبذ إلى العدوّ: اس نے دشمن سے عہد کو اس کی طرف پھینک دیا۔ ـــ النبیذَ: نبیذ بنانا۔ ـــ العنبُ او التمرُ: انگور یا کھجور کا نبیذ بن جانا۔ نَبَّذَ النبیذَ: نبیذ بنانا۔ ـــ العنبُ او التمرُ: انگور یا کھجور کا نبیذ بن جانا۔ ـــ الشیءَ: کو پھینک دینا۔ نَابَذَ مُنَابَذَةً و نِبَاذًا ہٗ: کی مخالفت کرنا اور دشمنی کی وجہ سے اس سے جدا ہو جانا۔ ـ ہٗ الحربَ: سے اعلان جنگ کرنا۔ ـ ہٗ فی البیع: سے بیع منابذہ کرنا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک بیع تھی جس میں مشتری بیع پر کنکری پھینکتا تھا اور کہتا تھا جس بھیڑ بکری پر یہ کنکری لگ جائے وہ اتنے میں میری ہے۔ اسے بیع القاءِ الحجر اور بیع الحصاة بھی کہا جاتا ہے۔ تَنَابَذُوا: دشمنی کی وجہ سے، ایک دوسرے سے اختلاف کر کے علیحدہ ہو جانا۔ اِنْتَبَذَ النَبِیذَ: نبیذ بنانا۔ ـ العنبُ او التمرُ: انگور یا کھجور کا نبیذ بن جانا۔ ـ عن القوم: سے کنارہ کرنا، قوم کو چھوڑ دینا۔ ـ فلانٌ: عزلت نشیں ہو جانا، پرے ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ کہا جاتا ہے: انتبذ إلی ناحیة و انتبذ مکانا: ایک طرف ہو جانا، علیحدہ جگہ چلے جانا۔ النَبْذ (مص) جمع أَنْبَاذ: تھوڑی سی چیز۔ کہا جاتا ہے: ذهب مالُهُ و بقی نبذ منه: اس کا مال جاتا رہا، صرف تھوڑا سا بچا۔ أَنْبَاذ الناسِ: اوباش لوگ۔ النَبْذَة و النُبْذَة جمع نُبَذ: گوشہ۔ (کہا جاتا ہے: جلس نُبْذَةً: وہ ایک گوشے میں جا بیٹھا) چیز کا حصہ۔ جیسے کتاب کا ایک حصہ۔ النَبِیذ م نَبِیذَة: پھینکا ہوا، دھتکارا ہوا۔ ـــ جمع أَنْبِذَة: شراب یا کھجور سے کشید کی ہوئی شراب۔ عموماً انگور یا کھجور کا رس۔ النَبَّاذ: نبیذ فروش۔ المَنْبُوذ (مفع): حرام کا بچہ، بچہ جسے اس کی ماں نے راستہ میں پھینک دیا ہو۔ المِنْبَذَة جمع مَنَابِذ: تکیہ، سرہانہ۔ نَبَذَ ـ نَبْذًا و نَبَذَانًا عِرْقُهُ: کی رگ کا یا نبض کا چلنا، دھڑکنا، پھڑکنا، تھرتھرانا (نبض کے معنی میں)۔

ج نَبَذَ ـ نَبْذًا ہٗ: کو زور سے پھینکنا، پٹخنا، پھینکنا، کو بے پروائی سے پھینکنا؛ کو مسترد کرنا، ترک کرنا کو بیکار سمجھ کر پھینک دینا، کو ٹھکرانا، پر لات مارنا۔ ـــ ہٗ/ ہٗ: کو نکال دینا، ترک کر دینا، کا حقہ پانی بند کرنا، برادری سے نکالنا، کو نکال باہر کرنا، خارج کرنا، جلاوطن کرنا، شہر بدر کرنا، دیس نکالا دینا، کو ماننے یا اپنا کہنے سے انکار کر دینا، سے بے تعلقی ظاہر کرنا، کو پہچاننے سے انکار کر دینا، سے قطع تعلق کرنا، دور کرنا، نظر انداز کرنا، برخاست کرنا، چھوڑنا، جانے دینا، چھوڑ بیٹھنا، سے الگ ہو جانا، سے دستبردار ہونا۔ ـــ ہٗ: کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، قسم کھا کر ترک کرنا، کو بالکل چھوڑ دینا۔ ـــ ہٗ: (عہد وغیرہ) توڑنا، کی خلاف ورزی کرنا، کی بے ادبی کرنا، کی بے حرمتی کرنا۔ ـ إلی: کے خلاف فیصلہ دینا۔ نَبَذَه نَبْذَ النَوَاة: کو مسترد کرنا، کو ٹھکرانا، کو لات مارنا۔ نَبَّذَ بمعنی نَبَذَ نیز نَبَّذَ ہٗ: انگوروں کو نچوڑنا۔ نَابَذَه: سے جدا ہونا، الگ ہونا، کی رکنیت چھوڑنا، سے قطع تعلق کرنا؛ کی مخالفت کرنا، کا مقابلہ کرنا۔ نَابَذَه الحربَ: کے خلاف اعلان جنگ کرنا۔ أَنْبَذَ ہٗ: انگوروں کو نچوڑنا۔ تَنَابَذَ: ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔ اِنْتَبَذَ: دستبردار ہونا، کنارہ کش ہونا، گوشہ نشین ہونا، پیچھے ہٹنا، واپس ہو جانا۔ ـــ ناحیةً: پرے ہو جانا، پرے ہٹ جانا، ایک طرف ہو جانا، گوشہ نشین ہو جانا۔ نَبْذ: پھینکنا، مسترد کرنا، استرداد، نامنظوری، قطع تعلق، انکار، تردید، دستبرداری، واگزاشت، دست کشی، تیاگ، ترک۔ جمع أَنْبَاذ: تھوڑا سا، معمولی سی چیز۔ نَبْذ الطاعةِ: نافرمانی۔ نُبْذَة: تھوڑا سا ٹکڑا، حصہ، چھوٹا سا حصہ کسر، (اخبار میں) مضمون، کہانی، قطعہ، پمفلٹ، دستی اشتہار، چھوٹا اشتہار۔ نَبِیذ: مسترد کیا ہوا، متروک، نکالا ہوا، برطرف کیا ہوا، قبول نہ کیا ہوا، نہ مانا ہوا، انکار کیا ہوا، قطع تعلق کیا ہوا، جمع أَنْبِذَة: شراب۔ روح النبیذ: شراب کی سپرٹ، الکحل۔ القوة النابِذَة: مرکز گریز قوت۔ منبوذ: پھینکا ہوا، ترک کیا ہوا، برادری سے خارج کیا ہوا، حقہ پانی بند کیا ہوا، برادری سے نکالا ہوا، جلا وطن کیا ہوا، نکالا ہوا، ماننے سے انکار کیا ہوا، اپنانے سے انکار کیا ہوا، پہچاننے سے انکار کیا ہوا، مسترد کیا ہوا، جس سے لاتعلقی ظاہر کی گئی ہو، چھوڑا ہوا، گرا پڑا بچہ، بن ماں باپ کا بچہ، نظر انداز کیا ہوا۔ المنبوذون: (ہندوستان میں) اچھوت، شودر۔

نبر: ۱۔ نَبَرَ ـ نَبْرًا الغلامُ: لڑکے کا بڑھنا۔ ـ المغنّی: گویے کا آواز کو پست کرنے کے بعد بلند کرنا۔ ـــ الرجُلَ: کو ڈانٹنا، جھڑکنا۔ ـ ہٗ بلسانه: کی غیبت کرنا۔ ـ الشیءَ: کو اونچا کرنا۔ ـ الحرفَ: حرف پر ہمزہ لگانا۔ ـ الرمحَ عنه: تیزی سے نیزہ اٹھانا۔ أَنْبَرَ الأَنبارَ: کٹھیلا بنانا۔ اِنْتَبَرَ الجرحُ: زخم کا سوجنا۔ ـــ الخطیبُ: خطیب کا منبر پر چڑھنا۔ ـ الجسدُ: جسم کا سوجنا۔ ـ ت یدُهٗ: کے ہاتھ میں چھالا پڑنا۔ النَبْر (مص): بے شرم، لوگوں کی غیبت کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: طعن طعنا نبرا: جلدی سے اور آنکھ بچا کر خنجر مارنا۔ النِبْر جمع نِبَار و أَنْبَار (ح): چیچڑی، ایک قسم کی مکھی، غلہ رکھنے کی کوٹھری، کٹھیلا۔ النَبْرَة: نبر کا اسم مرہ، اوپر کے ہونٹ کا درمیانی گڑھا، ہمزہ (ء): جسم کی سوج، ورم، پست آواز کو بلند کرنا، خوف کی چیخ، کسی چیز کا بلند حصہ۔ النُبْرَة جمع نُبَر: بڑا لقمہ۔ النَبَّار: چلانے والے، فصیح۔ رجل نَبَّار بالکلام: فصیح شخص۔ النَبِیر: پنیر۔ اکلنا النبیر: ہم نے پنیر کھایا۔ الأَنبار جمع أَنَابِیر و أَنَابِر و أَنْبَارَات: غلہ رکھنے کی کوٹھری۔ کہا گیا کہ انبار ایک مفرد نام ہے جو فارسی سے معرب ہے۔ المِنْبَر جمع مَنَابِر: وہ بلند جگہ جس پر چڑھ کر خطیب یا واعظ لوگوں کو خطاب کرتا ہے۔ منبر۔ قصائدُ مُنَبَّرَة و مَنْبُورَة: ہمزہ کے قافیہ والے قصیدے۔

۲۔ النِبْر جمع نِبَار و أَنْبَار: پست قد، کمینہ۔ النُبَیر: دانا آدمی۔

۳۔ النَبْرِیج: (عوام نَرْبِیج کہتے ہیں): حقہ کی نلکی (فارسی لفظ)۔

۴۔ النِبْرَاس جمع نَبَارِیس: چراغ، لالٹین، لیمپ (سریانی لفظ): نیزے کا سرا، دلیر، جرأت والا۔ (ح): شیر۔ النبارِیس: قریب قریب واقعہ کنویں۔ النِبْرِیس: ہوشیار، ماہر۔

۵۔ النِمْبِرِشت: نیم بریاں۔ بیضٌ نمبرشت: نیم بریاں انڈہ۔ عوام کہتے ہیں: بیض برشت (فارسی لفظ)۔

ج نَبَرَ ـ نَبْرًا: اونچا اٹھانا، بلند کرنا، آواز بلند کرنا، اونچی

آواز میں گانا: زور دینا، زور ڈالنا، زوردار لہجے میں ادا کرنا۔ —ہ: سے بلند آواز میں بات کرنا، سے چلا کر کہنا، اونچی آواز سے اظہار خیال کرنا۔ اِنْتَبَرَ: سوجنا، متورم ہونا۔ نبر: تاکیدزور۔ نبر و انبار جمع انابر و انابیر: غلہ گودام، غلہ رکھنے کا کوٹھا، سٹوررُوم، سٹور ہاؤس، کوٹھی، گودام، مال خانہ۔ نَبْرَۃ جمع نَبَرات: سوجن، ورم، ابھار، زور، تاکید، دباؤ، آواز کا انداز، لہجہ جمع نَبَرات: لہجہ، آواز کا انداز، لہجہ جمع نبرات: لہجہ، آواز کا اتار چڑھاؤ، زیر و بم، لے، الحان، جملوں کی موسیقیت، نثر کا وزن۔ مِنْبَر جمع منابر: منبر، پلیٹ فارم، چبوترا، اسٹیج، شہ نشین۔ مِنْبار جمع منابیر: آنتیں، امعاء، آنت، رودہ۔ مِنْبار مَحْشِي: قیمہ بھری آنت، مسالہ دار آنت۔ اتَّخذ منه نبراسًا: کو نمونہ جاننا یا سمجھنا، اپنے آپ کو کسی جیسا بنانا۔

نبز: نَبَزَ ـنَبْزًا و نَبْزَۃً ـہ بکذا: کو سے ملقب کرنا (برے معنی میں آتا ہے)۔ تَنابَزُوا بالالقاب: ایک دوسرے کو شرم دلانا، ایک دوسرے کو برے لقب دینا۔ النَبْز جمع أنباز: لقب۔ النَبِز: کمینہ، برا۔ النُبَزَۃ: برے لقب دینے والا۔

۞ نَبَزَ ـنَبْزًا و نَبَزًا و: کو تضحیک آمیز یا ہتک آمیز نام دینا۔ نَبْز جمع أنباز: عرف، فرضی نام۔

نبس: ا۔ نَبَسَ ـنَبْسًا و نُبْسَۃً و نَبَّسَ بالمجلس: مجلس میں بولنا، اس کا استعمال نفی میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ مانَبَسَ بکلمۃ: وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ — السِرَّ: راز کو چھپانا۔ اَنْبَسَ: ذلت سے خاموش ہونا۔ النُبُس: بولنے والے۔ رجُلٌ اَنْبَسُ الوجه م نَبْساء جمع نُبْس: ترش رو، تیوری چڑھانے والا۔

۲۔ نَبِسَ نَبَسًا و نُبْسَۃ الرجل: متحرک ہونا، جلدی کرنا۔ اَنْبَسَ: جلدی کرنا۔ النُبَّس: جلدی کرنے والے، (اپنی حاجتوں میں)۔

نبش: ا۔ نَبَشَ ـنَبْشًا الشیءَ المستورَ: چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا۔ — الکنزَ من الارضِ: دفینہ زمین سے کھود کر نکالنا۔ اس سے ہے: نَبَشَ القبرَ۔ — الحدیثَ: بات نکالنا۔ — السِرَّ: بھید ظاہر کرنا، افشا کرنا۔ — عن الاسرار: بھیدوں کو نکال لینا۔ — لِعیالِه: کنبے کے لئے کمائی کرنا۔ نَبَّشَ ہ: کی تلاش کرنا، کو ڈھونڈنا۔ اِنْتَبَشَ الشیءَ من الارضِ: چیز کو زمین سے نکالنا۔ النَبّاش: فعال مبالغہ کے لئے، گور کن، قبر کھودنے والا۔ النِباشَۃ: گورکنی کا پیشہ۔ النَبیشَۃ: کھودی ہوئی زمین یا کنواں۔ الأنبوش: کھدا ہوا، کھدی ہوئی چیز۔ — و الأنبوشۃ جمع أنابیش: جڑ

سے اکھڑا ہوا درخت۔ أنابیش العنصلِ و نحوہ: جنگلی پیاز کی زمین میں جڑیں۔

۲۔ النَبیش (ن): ایک قسم کا درخت جس کے پتے صنوبر کے پتوں جیسے ہوتے ہیں اور لکڑی سرخ اور بہت سخت ہوتی ہے۔

۞ نَبَشَ ـنَبْشًا ہ: کو کھودنا، کو کھود کر نکالنا، لاش کھود کر نکالنا، قبر سے نکالنا، کو قعر گمنامی سے نکالنا؛ راز فاش کرنا، کا انکشاف کرنا، کو معلوم کرنا، کا پتہ چلانا، کو واضح کرنا۔ نَبَشَ فی: کو میں تلاش کرنا، کو میں بری طرح الٹ پلٹ کرنا، کو میں کریدنا، میں بل کھودنا، بھٹ بنانا؛ کو لوٹنا، کی لوٹ مار کرنا، ہر چیز لوٹ لینا، جھاڑو پھیرنا۔ نَبْش القبور: قبروں کی بے حرمتی۔ انبوش و انبوشۃ جمع أنابیش: کھدائی، کھودی ہوئی چیز۔

نبص: ا۔ نَبَصَ ـنَبْصًا فی المجلس: مجلس میں بولنا۔ اس کا اکثر استعمال نفی میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: مانبص بکلمۃ: وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ (سین اونچے درجہ کا ہے)۔ نَبَصَ نبیصًا الطائرُ: پرندہ کا آہستہ سے چوں چوں کرنا۔ النَبْصَۃ: نبص کا اسم مرۃ، لفظ، بات کہا جاتا ہے: ماسمعت لہ نَبْصَۃ: میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔

۲۔ نَبَصَ ـنَبْصًا الشعرَ: بال اکھیڑنا۔

۳۔ النَبْص (مص): سبزی کی کونپل۔

نبض: ا۔ نَبَضَ ـنَبْضًا و نَبَضانًا العِرقُ: رگ کا پھڑکنا۔ — تِ الأمعاءُ: آنتوں کا مضطرب ہونا۔ — البرقُ: بجلی کا ہلکے سے چمکنا۔ — نَبْضًا الشعرَ: بال اکھیڑنا۔ — نُبوضًا الماءُ: پانی بہنا یا جذب ہونا۔ نَبَضَ فی القوس: آواز نکالنے کے لئے کمان کی تانت کھینچنا۔ أنْبَضَ القوسَ و عن القوس و فی القوس: آواز نکالنے کے لئے کمان کی تانت کھینچنا۔ — الوترَ و بالوترِ: بجانے کے لئے تانت کو کھینچنا۔ النَبْض جمع أنباض: دل اور رگوں کی دھڑکن جس سے بدن کی صحت و بیماری کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ فؤادٌ نَبْضٌ: بہادر اور ہوشیار دل۔ فؤادٌ نَبْضٌ و نُبُضٌ: بہادر اور ہوشیار دل۔ النَبْضَۃ: نبض کی ایک دھڑکن۔ النابض (فا): تیرانداز، پٹھا۔ کہا جاتا ہے: نَبَضَ نابِضُہ: اس کا غصہ بھڑک اٹھا۔ المَنْبِض جمع مَنابِض (طب): وہ جگہ جہاں طبیب ہاتھ رکھ کر نبض کی حالت دریافت کرتا ہے۔ المِنْبَض جمع مَنابِض: روئی دھننے کا آلہ۔

۞ نَبَضَ ـنَبْضًا و نَبَضانًا: (دل، نبض) کا دھڑکنا، پھڑکنا، اچھلنا، چلنا، دھک دھک کرنا۔ — نُبوضًا

بہنا، بہہ جانا۔ نَبْض و نَبَض جمع أنباض: دھڑکنا، دھڑکن، ارتعاش، تڑپ، اختلاج قلب، دل کی دھڑکن، نبض۔ جنبش نبض، تھرتھراہٹ، لرزش، نبض یا دل کا حرکت کرنا۔ نَبْضَۃ: دھڑکن، تڑپ، ارتعاش، نبض یا دل کی حرکت۔ نابض: مرتعش، دھڑکتا ہوا، اچھلتا، پھڑکتا، دھڑکتا، جوش کی حالت میں دھڑکتا ہوا، دھک دھک کرتا: کمانی، چکردار کمانی۔ نابضٌ بالحیاۃ: زندگی سے مرتعش، زندگی سے جھومتا، تھرتھراتا، زندگی کی لہر سے معمور۔

نبط: ا۔ نَبَطَ ـنَبْطًا و نُبوطًا الماءُ: پانی کا پھوٹ نکلنا۔ — نَبْطًا البئرَ: کنویں کا پانی نکالنا۔ — الشیءَ: پوشیدگی کے بعد چیز کو ظاہر کرنا۔ نَبَّطَ البئرَ: کنویں کا پانی نکالنا۔ أنبطَ البئرَ: کنویں کا پانی نکالنا۔ — الشیءَ: پوشیدگی کے بعد چیز کو ظاہر کرنا۔ — الحُکمَ: اجتہاد سے حکم استنباط کرنا۔ کہا جاتا ہے: أنبطُ رأیًا حسنًا او معنیً صائبًا: اس نے اچھی رائے یا صحیح مفہوم استنباط کیا یا نکالا۔ تَنَبَّطَ: نبطیوں کے مشابہ ہونا یا ان کی طرف منسوب ہونا۔ — البئرَ: کنویں کا پانی نکالنا۔ اِنْتَبَطَ الکلامَ: اجتہاد سے بات نکالنا۔ اِسْتَنْبَطَ البئرَ: کنویں کا پانی نکالنا۔ — الشیءَ: پوشیدگی کے بعد چیز ظاہر کرنا۔ — ہ: کو ایجاد کرنا۔ — من فلانٍ خیرًا: سے بھلائی کا نتیجہ نکالنا۔ — العربُ: عربوں کا نبطی ہو جانا۔ — الفقیهُ: فقیہ کا اپنے فہم و اجتہاد سے کوئی بات نکالنا۔ کہا جاتا ہے اِسْتَنْبَطَ رأیًا حسنًا او معنیً صائبًا: اس نے اچھی رائے اور صحیح مفہوم کا استنباط کیا۔ النَبَط: آدمی کی اندرونی حالت۔ (کہا جاتا ہے: فلان لایُدرَکُ نَبَطُہ: فلاں کی اندرونی حالت اور اس کے علم کی تہ نہیں ملتی)۔ گھوڑے کی بغل اور پیٹ کی سفیدی۔ — جمع أنباط و نُبوط: کنویں کا پہلے ظاہر ہونے والا پانی، پہاڑ سے بہنے والا مادہ، گویا وہ چٹانوں کے پہلوؤں سے نکلا ہوا پسینہ ہے۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ قریبُ الثری بعید النَبَط: فلاں شخص وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا۔ — واحد نبطی و نباطی (بتثلیث النون) و نَباط جمع أنباط و نَبیط: عجمی لوگ جو عراقین کے درمیان آباد ہوئے تھے۔ مخلوط لوگ نَبَطی و نَباطی: نبط سے منسوب۔ کلمۃ نبطیۃ: عام کلمہ۔ النُبْطَۃ: سب سے پہلے ظاہر ہونے والا کنویں کا پانی۔ گھوڑے کی بغل اور پیٹ کے نیچے کی سفیدی۔ الأنبط م نَبْطاء جمع نُبْط من الخیل: گھوڑا جس کی بغل اور پیٹ کے نیچے سفیدی ہو۔

۲نَطَ فِيہ پر اثر کرنا، پر اثر انداز ہونا۔

نبط ۔ نُبُطًا و نُبُوطًا پانی کا پھوٹ نکلنا، ابلنا، فوارہ کی طرح بہنا، پھوٹ بہنا، دھار بن کر نکلنا، جاری ہونا، کا دریا بہنا خَبَطَ علی کی غلطیاں نکالنا، پر اعتراض کرنا، پر نکتہ چینی کرنا، کی عیب جوئی کرنا، کی ہنسی اڑانا، کا مذاق اڑانا، پر آوازے کسنا، پر ہنسنا، میں میخ نکالنا، کیڑے نکالنا أَنْبَطَ ہ کو پھوٹ بہانا۔ کو ظاہر کرنا، سطح پر لانا ۔ ہ (پانی، تیل وغیرہ) معلوم کرنا، دریافت کرنا ۔ ہ کو اتفاقاً پالینا، (سرچشمہ، کنواں وغیرہ) کھولنا اِسْتَنْبَطَ ہ (پانی تیل وغیرہ) دریافت کرنا، کو اتفاقاً پالینا، (سرچشمہ کنواں وغیرہ) کھولنا، کو ایجاد کرنا، دریافت کرنا، اختراع کرنا، کی ترکیب نکالنا، کی تدبیر کرنا، کا بندوبست کرنا، جتن کرنا، انتظام چلانا، ۔ ہ من کو سے حاصل کرنا، کو سے مشتق کرنا، کو سے نکالنا، کا سے اقتباس کرنا، کو سے لینا، پانا، وصول کرنا، نکالنا نَبَط: گہرائی، گہرا، تجر، اندرونی، عمیق، دلی، قلبی، گہرا عمیق ترین حصہ، قلبی حصہ، بالکل اندرونی حصہ، دل، گودا، مغز، بنیادی نکتہ مُسْتَنْبِط دریافت کرنے والا، ایجاد، کرنے والا مُسْتَنْبَطَات: ایجادات، انکشافات۔

نبع: انبَعَ ۔ و نَبِعَ ۔ و نَبُعَ ۔ نَبْعًا و نُبوعًا و نَبَعَانًا الماءُ: پانی کا چشمہ سے نکلنا تَنَبَّعَ الماءُ پانی کا تھوڑا تھوڑا آنا المَنْبَع (مص): پانی کا چشمہ (سریانی لفظ) ضرب المثل ہے لو اقتدح بالنبع لأورَى سارًا: جس شخص میں جودت رائے ہو اس کے لئے یہ ضرب المثل بیان کی جاتی ہے۔ کیونکہ نبع میں تو کوئی آگ نہیں ہوتی المنابِع (فا): وہ قلم جس میں سیاہی ہو المنابِعَة جمع نَوابِع: نابِع کا مونث نَوابِعُ البعير: اونٹ کے پسینے والے اعضاء المَنْبَاعَة سرین، چوتڑ المَنْبِيع: پسینہ المَمْنَبَع جمع مَنابِع: چشمہ المَيْنُبُوع جمع يَنابِيع: پانی کا چشمہ۔ بہت پانی والا نالا، ندی، کہا جاتا ہے فَجَّرَ اللّٰهُ يَنابِيعَ الحكمة على لسانه: اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے دانائی کے چشمے جاری کرے۔

۲النبع (ن): ایک درخت جس سے تیر کمان بنائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے قَرَعوا النبع بالنبع انہوں نے ایک دوسرے سے نیزہ بازی کی ما رأيتُ أصلَبَ منه نَبْعًا: میں نے اس سے زیادہ سخت کسی کو نہیں دیکھا النَّبْعَة (ن) النبع درختوں کا واحد۔ کمان کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے هو من نَبْعَةٍ کریمۃ یعنی وہ شریف الاصل ... چندیا یا تالو، سخت ہونے پر اس کا نام يافوخ ہوتا ہے النَّبْعِيَّة نبع درخت سے بنائی گئی کمان۔

نبع ۔ نَبْعًا و نُبوعًا و نَبَعانًا من سے پانی کا پھوٹ نکلنا، ابلنا، فوارہ کی طرح بہنا، پھوٹ بہنا، دھار بن کر نکلنا، جاری ہونا، کا دریا بہنا ۔ دریا کا چڑھنا، وجود میں آنا أَنْبَعَ ہ کو بہانا نَبِع ایک درخت جس کی لکڑی تیر بنانے میں کام آتی تھی۔ چشمہ، منبع، سرچشمہ، اصل، ماخذ قَرَعَ النبع بالنبع دشمن سے شمشیرزنی کرنا مَنْبَع جمع مَنابِع چشمہ، کنواں، سرچشمہ، اصل، منبع زیت یا منبع بترول تیل کا کنواں يَنْبُوع جمع يَنابِيع چشمہ، سرچشمہ، کنواں۔

نبغ: نَبَغَ ۔ نَبْغًا و نُبوغًا الشيءُ: چیز کا نکلنا، ظاہر ہونا ۔ الماءُ پانی کا چشمہ سے نکلنا ۔ الوعاءُ بالدقيق: برتن سے پتلا ہونے کی وجہ سے آٹے کا نکلنا، چھننا ۔ الشرُّ برائی کا پھیلنا، ظاہر ہونا ۔ رأسُهُ: سر میں بھوسی ہونا ۔ الرجلُ اچھے شعر کہنا ۔ في العلم وغيره: علم وغیرہ میں فائق ہونا ۔ في الدنيا دنیا میں آسائش کی زندگی گزارنا، کہا جاتا ہے نَبَغَ فيهم النفاق لوگوں میں منافقت ظاہر ہوگئی، جسے وہ چھپاتے تھے نَبَّغَ الناخِلُ: آٹا چھاننا ۔ البلدَ: شہر میں بہت آنا جانا المَنْبَغ: چکی کا گرد وغبار نُبَغَةُ القوم: قوم کے برگزیدہ لوگ المُنْباغ: چکی کا گرد وغبار ۔ والنُّباغة والنُّبّاغ و النُّبّاغة آٹا، سر کی بھوسی۔ النابغة: وہ گفتگو جس کی فصاحت ظاہر ہوئی ۔ جمع نَوابِغ: فصیح، خوش بیان، عظیم الشان شخص النوابِغ: آٹھ مشہور شاعروں کا لقب، نسبت کے لئے نابغي النَّبِيغ جمع نُبَغاء: عظیم الشان شخص۔

نبغ ۔ نَبْغًا و نُبوغًا من سے پیدا ہونا، سے برآمد ہونا، نکلنا ۔ مشہور ہونا، نمایاں ہونا، نظر آنا، نمودار ہونا، دکھائی دینا، پھیلنا، منتشر ہونا، نفوذ کرنا، پھیلایا جانا، اعلیٰ اور غیر معمولی خوبیاں کا مالک ہونا، نمایاں ہونا، ممتاز ہونا ۔ في میں بازی لیجانا، سبقت لیجانا، نمایاں ہونا، نمایاں اور غیر معمولی شخص ہونا، غیر معمولی ذہین (نابغہ) ہونا نُبوغ: امتیاز، اعزاز، اعلیٰ یا غیر معمولی خوبیاں، غیر معمولی صلاحیتیں، قابلیت، صلاحیت، ذہانت، طباعی، جوہر، عظیم ذہانت، غیر معمولی ذہانت، نمایاں عظمت، آب و تاب نابغ: نمایاں، ممتاز، قابل، ذہین، طباع، جوہر قابل، غیر معمولی خوبیوں کا مالک، ذہین فطین شخص نابغة جمع نوابغ ممتاز، مشہور یا نمایاں شخص، شعر گوئی میں غیر ...

نبق: نَبَقَ ۔ نَبْقًا: وادی میں ایک قطار پودا لگانا ۔ الرجلُ لکھنا نَبَّقَ الرجلُ: لکھنا ۔ الشجرَ پودے ترتیب وار لگانا ۔ الكتابَ: کتاب پر ترتیب وار لکیریں کھینچنا ۔ وانْبَقَ وادی میں ایک قطار پودا لگانا۔

۲نَبَقَ ۔ نُبُقًا و نَبَّقَ الشيءُ: نکلنا، ظاہر ہونا نَبَّقَ النخلُ کھجور کے درخت کا خراب ہونا اور کھجوروں کا بیروں کی طرح چھوٹا ہونا انتبق الكلام کلام نکلوانا النَّبُوقُ (مص): کھجور کے درخت کے گودے سے نکلنے والا میٹھا آٹا ۔ والنِّبْق والنَّبَق واحد نَبِقَة بیری کے درخت کا پھل النَّبِقَة جمع نَبائِق: انگور کے خوشے نکلنے کی جگہ میں بڑی گرہ۔

نَبْق و نِبْق و نَبَق و نَبِق: (اسم جمع واحد نَبِقَة) ایک خاردار پودا۔ کنول پھل، کنول پھول انْبيق وانبيق جمع أنابيق: قرنبیق، شراب کشید کرنے کا قدیم آلہ، بھبکا، بوتل جس میں کشید کیا ہوا عرق وغیرہ جمع کیا جاتا ہے۔

نبك: نَبَكَ ۔ نُبوكًا وانْتَبَكَ المكانُ: جگہ کا بلند ہونا۔ النابِك جمع نَوابِك: بلند جگہ، کہا جاتا ہے مكانٌ نابِك و ارضٌ نابِكة: اونچی جگہ یا زمین النَّبَكَة جمع نَبَك و نُبُك ونِباك ونُبوك: چوٹی دار ٹیلہ یا چھوٹا ٹیلہ النَّبْكَة جمع نَبْك و نُبُك ونِباك و نُبوك: چوٹی دار ٹیلہ یا چھوٹا ٹیلہ۔ درخت کی جڑ۔

نُبْكَة و نَبْكَة: پہاڑی، ٹیلہ، تودہ۔

نبل: انَبُلَ ۔ نَبالَةً: شریف ونجیب ہونا۔ صفت نَبْلٌ و نَبِيل م نَبْلَة و نَبِيلَة جمع نِبال ونَبائِل ونَبْلات ونَبِيلات ۔ نَبَلَهُ: پر شرافت ونجابت میں غالب آنا الرجلَ: کو تیر مارنا یا تیر دینا ۔ الإبلَ: اونٹوں کو تیز ہانکنا ۔ الرجلُ: تیز چلنا ۔ بالسهم: تیر مارنا ۔ على القومِ: تیر چن کر لوگوں کو دینا تا کہ وہ اسے چلائیں نَبُلَ ۔ نَبالَةً عن كذا: سے بڑا ہونا۔ نَبَّلَ الرجلَ: کو تیر دینا نابَلَ مُنابَلَةً ہ: پر شرافت و نجابت میں غالب آنا أنْبَلَ ہ: کو تیر دینا ۔ القِداحَ: تیروں کو موٹا اور سخت بنانا تَنَبَّلَ: صاحب شرافت اور سمجھدار ہونا، شرفاء کے مانند بننا ۔ المالَ اچھا اچھا مال لینا ۔ ت الخطوبُ: حوادث کا بڑا ہونا۔ تَنابَلَ القومُ: ایک دوسرے سے تیر اندازی یا تیر بنانے میں مقابلہ کرنا تَنَبَّلَ: مرنا، مرجانا۔ متعفن ہونا ۔ فلانًا: کو قتل کرنا ۔ الخطبُ: حادثہ کا بڑا ہونا ۔ الشيءَ: کو یک بیک پھرتی سے اٹھالینا ۔ للامر معاملہ بات وغیرہ سے آگاہ ہونا اور اس کے لئے تیار

سے عمدہ حصہ لینا، اچھا اچھا مال لینا۔ النابل جمع نُبَّل ونُبّال: تیر والا۔ تیر مارنے والا، تیر بنانے والا، تیر چلانے کا ماہر، کہا جاتا ہے۔ اختلط الحابل بالنابل: جب کوئی گڑ بڑ ہو جائے تو اس وقت کہتے ہیں۔ یعنی سب کچھ گڈ مڈ ہو گیا، کامل ابتری کی حالت میں ہو جانا۔ النُبل ذکاوت، شرافت، نجابت، فضیلت، کمال جسم، کہا جاتا ہے: اخذ للامر نُبلَتَهٗ اس نے کام کی تیاری کی النبل (مص) جمع نِبال: صاحب نجابت و فضیلت۔ واحد نُبلَۃ جمع نبال و انبال و نُبلان: تیر (مونث ہے)۔ نبل الدهر حوادث زمانہ رجلٌ نَبلٌ جمع نُبلاء صاحب فضیلت و بزرگی النُبل واحد نُبلَۃ: بڑے یا چھوٹے پتھر۔ النَبل اصحاب ذکاوت و نجابت (اسم جمع ہے)۔ واحد نَبلَۃ بڑے یا چھوٹے پتھر۔ رجُلٌ نَبلٌ م نَبلَۃ: شریف آدمی۔ النُبلۃ جمع نُبلات عطیہ، ثواب و جزاء۔ نُبلۃ کل شیء ہر شئے کا عمدہ حصہ۔ النَبالَۃ: صاحب ذکاوت و نجابت (اسم جمع ہے)۔ النبالَۃ (مص) ذکاوت، نجابت، فضیلت۔ النِبالَۃ: تیر سازی۔ النُبالَۃ: تیاری، کہا جاتا ہے: اخذ للامر نُبالَتَهٗ اس نے کام کے لئے تیاری کی۔ النَبّال جمع نَبّالَۃ تیر والا، تیر انداز، تیر بنانے والا۔ النَبیل جمع نِبال صاحب نجابت و فضیلت، بڑے جسم والا، بھاری بھرکم، کہا جاتا ہے۔ انہ نبیلُ الرای وہ عمدہ رائے والا ہے۔ النبیلۃ جمع نبائل نبیل کا مونث، کہا جاتا ہے: فلانۃ نبیلۃ بالحسن وہ عورت بہت نجیب اور فضیلت والی ہے۔ مردار (کیونکہ پھینک دیا جاتا ہے) الأنبل اسم تفضیل، زیادہ شریف و نجیب و زیادہ ذکاوت والا۔ تیر اندازی کا زیادہ واقف یا ماہر۔

٢۔ نَبَل ـُ نُبالَۃً بالطعام: تھوڑا تھوڑا کھانا دیکر بہلانا۔ بہ: سے نرمی برتنا۔ النُبلۃ جمع نُبلات چھوٹا لقمہ۔

٣۔ انبَل النخل: کھجور کے درخت کا پکی ہوئی کھجوروں والا ہونا۔

۴۔ النِنبال والنِنبالۃ: دیکھو تنبل۔

نَبَل ـُ نُبلاً: پر تیر چلانا۔ نَبُل ـُ نَبالَۃً: شریف ہونا، اونچے خاندان کا ہونا، عالی نسب ہونا، شریف النفس ہونا، کریم النفس ہونا، فیاض ہونا، فراخدل ہونا۔ عن: سے بالاتر ہونا، کسی ذلیل حرکت پر اتر آنے سے کہیں عالی ظرف و منش ہونا۔ اتنا عالی ظرف ہونا کہ کسی ذلیل حرکت پر اتر آنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ نَبَل و نَبیل جمع نِبال و نُبلاء: شریف، نجیب، بہت اونچا، سرفراز، پرجلال، جلیل القدر، عالیشان، خاندانی، شائستہ، عالی نسب، سربرآوردہ، ممتاز، امیرانہ انداز

والا، شریف النفس، عالی ظرف، کریم النفس، برتر، شاندار، پرشکوہ۔

نبہ ١۔ نَبَہَ ـُ ونَبُہَ ـُ نَباہَۃً: شریف ہونا، مشہور ہونا، صفت نَابِہٌ و نَبِہٌ و نَبیہٌ۔ نَبِہَ ـَ نَباہَۃً: بمعنی نَبَہَ۔ نَبِہَا للامر معاملہ کو سمجھ جانا۔ نَبِہَا من نومہ: نیند سے بیدار ہونا۔ نَبَّہَ باسمہ: اس نے اس کے نام کو مشہور کیا۔ ـ ہٗ من نومہ: کو نیند سے بیدار کرنا۔ ـ ہٗ علی او الی الامر: کو سے واقف کرنا، آگاہ کرنا۔ انبَہَ ہٗ من النوم: کو نیند سے بیدار کرنا۔ تَنَبَّہَ من نومہ: نیند سے بیدار ہونا۔ ـ علی اوللامر معاملہ سے واقف ہونا۔ معاملہ کو سمجھ جانا۔ انتَبَہَ الرجُلُ: خاندانی ہونا۔ ـ من النوم: نیند سے بیدار ہونا۔ ـ للامر: معاملہ کو سمجھ جانا۔ استَنبَہَ من نومہ: نیند سے بیدار ہونا۔ النابہ والنبہ جمع نُبہاء: شریف، سمجھدار، شرافت والا، شہرت والا۔ امرٌ نابہٌ: بڑا کام النُبہ: سمجھ، دانائی۔ النَبَہ (مص) مشہور، کھوئی ہوئی چیز جو بلا تلاش مل جائے، موجود چیز۔ کہا جاتا ہے: وجدتُ الضالۃ نَبَہاً: مجھے کھوئی ہوئی چیز بلا تلاش مل گئی۔ ـ جمع نُبہاء: سمجھدار، شرافت والا، شہرت والا، شریف کہا جاتا ہے: رجُلٌ نَبہٌ: شریف مرد قومٌ نبہٌ: شرفاء (مفرد و جمع کے لئے کیونکہ وہ مصدر ہے) النَباہُ: بلند، نمایاں۔ النَباہۃ: سمجھ، شرافت، شہرت۔ النَبیہ جمع نُبَہاء: شریف، سمجھدار، شرافت والا، شہرت والا۔ المَنبَہۃ: یاد کرانے کا ذریعہ کہا جاتا ہے: ھذا مَنبَہَۃٌ علی کذا: اس سے فلاں چیز کا پتہ چلتا ہے۔ رجُلٌ منبوہُ الاسم: معروف نام کا شخص۔

٢۔ انبَہَ الحاجۃَ: حاجت کو بھول جانا۔

نَبَہَ ـُ ونَبِہَ ـَ ونَبُہَ ـُ ونَباہَۃً: معروف ہونا، مشہور ہونا، نامور ہونا، ممتاز ہونا، نامی گرامی ہونا۔ نَبِہَ ـَ نَبَہاً ل: کی طرف توجہ کرنا، کی نگہداشت کرنا، کو دیکھنا، جاگنا، بیدار ہونا۔ نَبَّہَ ہٗ الی / علی: کی توجہ کسی چیز کی طرف مبذول کرانا، کو کی طرف توجہ دلانا، کو کچھ دکھانا یا بتلانا، کو سے مطلع کرنا، آگاہ کرنا، کو کی اطلاع دینا، کو کی یاددہانی کرانا۔ ـ ہ علی: کو کے بارے میں اطلاع دینا، ہدایت دینا، حکم دینا، کو کے بارے میں تازہ ترین اطلاع یا ہدایت دینا، بریف کرنا۔ ـ ہٗ: کو متنبہ کرنا، تنبیہ کرنا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا۔ ـ ہ من النوم: کو نیند سے جگانا۔ ـ: کو چوکس کرنا، ہوشیار کرنا، جھنجھوڑنا، تیز کرنا، میں چلا کی پیدا کرنا۔ انبَہَ ہٗ: کو بیدار کرنا، ہلانا۔ تَنَبَّہَ ل / الی: کا ادراک کرنا، کو سمجھنا، بوجھنا، پر غور کرنا، کو سوچنا، کو دیکھنا، پر دھیان کرنا۔ کو پوری طرح

سمجھ لینا، سے آگاہ ہونا، باخبر ہونا۔ علی / الی / ل: کے لئے چوکس ہونا، پر متوجہ ہونا، کا نوٹس لینا، پر توجہ کرنا، سے باخبر یا آگاہ ہونا، کے بارے میں ہوشیار ہو جانا، چوکس ہو جانا۔ ـ: بیدار ہونا، جاگ جانا۔ ـ لنفسہ: ہوش میں آنا۔ انتَبَہَ: چوکنا ہونا، چوکس ہونا، ہوشیار ہونا محتاط ہونا، بیدار ہونا۔ ـ ل / الی: کو دیکھنا، سمجھ لینا، کی طرف توجہ کرنا، کو سمجھ لینا، کا ادراک کرنا، سے آگاہ ہونا، پر توجہ دینا۔ لنفسہ: ہوش میں آجانا۔ مَنبَہَۃٌ علی: کی طرف کسی کی توجہ دلانے کی آواز، پکار یا چیخ، کا محرک، کی تحریک، انگیخت، آلۃُ التنبیہ: ہارن، بھونپو (Horn) بانتباہ: توجہ سے، ہوشمندی سے۔ مُنَبِّہ جمع مُنَبِّہات: الارم والا ٹائم پیس۔ Alarm Clock مُنتَبِہ: چوکس، چوکنا، ہوشیار، بیدار، متوجہ محتاط، ہوشمند، مُتَنَبِّہ: بیدار، چوکنا، چوکس ہوشیار۔

نبو: نَبا یَنبو نَبوۃً ونُبُوًّا و نَبِیًّا بصرہٗ: کی نظر دھندلی ہونا صفت ناب۔ الشیُّ: دور ہونا، پیچھے ہونا، اپنی جگہ قرار نہ پکڑنا۔ ـ نَبوًا و نَبوۃً السیفُ عن الضریبۃ: مضروب، سے تلوار کا اچٹ جانا اور کاٹ نہ کرنا۔ جنبُہٗ عن الفراش: بستر پر بے چین و بے آرام ہونا۔ ـ السہمُ عن الھدف: تیر کا نشانہ سے چوک جانا۔ ـ الطبعُ عن الشیء: طبیعت کا سے نفرت کرنا اور اسے قبول نہ کرنا۔ ـ ت صورۃُ فلان: کی شکل بدصورت ہونا اور آنکھوں میں نہ جچنا۔ ـ عن الشیء: کو زائل کرنا، جدا کرنا، چھوڑنا۔ ـ المکانُ بفلان: جگہ کا کو موافق نہ آنا۔ ـ علیہ الامرُ او الصاحبُ: کیلئے معاملہ یا ساتھی کا کھرا نہ ہونا۔ ـ بی فلانٌ: فلاں نے مجھ پر ظلم کیا، کہا جاتا ہے: نَبَت بی تلک الارضُ: مجھے یہ زمین موافق نہ ہوئی۔ میں نے اس زمین پر قرار نہ پایا۔ انبی السیفَ: تلوار کو کند کرنا۔ النابی: چوکنے والی تلوار یا تیر، لڑائی میں پشت دینے والا، موٹا۔ النابیۃ: نابی کا مونث، تانت سے دور کمان۔ النَباءۃ: شرافت، ریاست اور آگے بڑھنے کی طلب۔ النَباوۃ: اونچی زمین۔ النَبو: بلندی النَبوۃ (مص) اونچی زمین۔ نَبوۃُ الزمان: زمانہ کی سختی۔ النُبُوَّۃ النُبُوءۃ: (دیکھو نبا) النَبِیّ النبی: (دیکھو نبأ) ـ من الارض: بلند زمین۔

نبا ـُ نَبوًا و نُبُوًّا: دور ہونا، بہت دور ہونا، دور چلے جانا۔ ـ عن (تیر کا) نشانہ سے چوک جانا، نشانہ پر نہ لگنا۔ ـ عن الی (گیند کا) سے اچھل کر تک جانا، سے تک چھلانگیں لگاتے جانا، سے تک اچھلنا، سے کو

پلٹنا، سے نکل کر پیچھے (کسی جگہ) بننا۔ عن سے کسی بات پر اختلاف رکھنا، سے متصادم ہونا، آویزاں ہونا، کے خلاف یا برعکس ہونا، کا الٹ ہونا، سے متضاد، سے بے میل یا بے جوڑ ہونا، کو سخت ناپسند ہونا، ناگوار ہونا، کو ناپسند کرنا، سے نفرت کرنا۔ نَبَا بِهِ المكانُ: اس نے محسوس کیا کہ وہ اس جگہ نہیں رہ سکتا۔ نَبِی جمع نَبِیُّون وانبیاء: نبی۔ پیغمبر۔ نَبَوِی: نبوی، نبی کا، نبی سے متعلق خصوصاً نبی کریمؐ سے متعلق۔ نُبُوَّہ: پیغمبری، نبوت، پیش گوئی، پیشین گوئی۔ نابٍ: سخت ناپسند، ناپسندیدہ مکروہ، نامناسب، نازیبا، بدصورت، ڈراؤنا۔

نت: نَتَّ ۔ نَتِيتُ القِدرُ: ہانڈی کا ابلنا۔ نُتًّا و نَتِيتًا منہ غضبًا: غصہ سے نتھنے پھلانا۔ نَتَّ الخبرَ: خبر بیان کرنا۔ نَتَّتَ الرجلُ: صفائی کے بعد گندہ ہونا۔ النَّتّ: چھوٹا سا گڑھا جس میں پانی جمع ہو۔

نتا: نَتَا ۔ نَتْوًا و نُتُوًّا الشيءُ: اپنی جگہ سے باہر کو نکلنا مگر جدا نہ ہونا۔ الشيءُ: بلند ہونا، پھولنا۔ ت القرحةُ: زخم کا متورم ہونا، سوج جانا۔ الثديُ: پستانوں کا ابھرنا۔ ت الجاريةُ: لڑکی کا بالغ ہونا۔ علی القومِ: قوم کے سامنے ظاہر ہونا۔ انتَتا الشيءُ: بلند ہونا۔ درست ہونا۔ النّاتِيُّ (فا): ہر بلند چیز جیسے گھر وغیرہ۔ تخفیف کرکے نَاتِی بھی کہہ سکتے ہیں۔ النَّتْوء (مص) والنُّتاۃ: ٹیلہ۔

نتأ: نَتَأ ۔ نَتْأً و نُتُوءًا: پھولنا، سوجنا، ابھرنا، باہر کو نکلنا، نکل آنا، آگے یا باہر نکلا ہوا ہونا، ابھرا ہوا ہونا، نمایاں ہونا، مثبت کا رہونا، کیلیں جڑی ہونا، ابھرواں نقش والا ہونا۔ نَتَأة: پہاڑی، ٹیلہ، بلندی، ارتفاع، چڑھائی۔ نُتُوء: سوجن، ورم، گومڑا، گلٹی، دنبل، سخت ابھار، شاخسانہ، پھنسی، پھوڑا، رسولی، آگے کو نکلا ہوا حصہ، چھجا، پہاڑ کا سامنے نکلا ہوا حصہ، نمود، ابھار، پہاڑی، ٹیلہ، بلندی، ارتفاع۔ نُتُوءُ الجَبهَة: دشمن کی صف اول میں ڈالا ہوا شگاف، فرنٹ لائن کا ابھار۔ نَاتِئ جمع نَوَاتِئ: پھولن، پھولا ہوا، باہر کو نکلا ہوا، نمایاں، ابھرا ہوا، ابھار، ناہموار ابھار، پہاڑی، ٹیلہ، ارتفاع، بلندی، کوہان، کب، کوبڑ۔ نَاتِئ کُعْبُری: کلائی کی ہڈی۔ نَاتِئَة جمع نَوَاتِئ: ابھرا ہوا حصہ، آگے کو نکلا ہوا حصہ، ابھار، نمود، امتیاز، شاخسانہ، دنبل، پھوڑا، پھنسی، رسولی، کوہان، کب، کوبڑ، بلندی، ارتفاع۔

نتب: نَتَبَ ۔ نُتُوبًا الشيءُ: پھولنا، سوجنا، ابھرنا، باہر کو نکلنا، نکل آنا، آگے یا باہر نکلا ہوا ہونا، ابھرا ہوا ہونا۔

نتج: نَتَجَ ۔ نَتْجًا الماخضَ من البهائمِ: جانور کے جننے تک اس کی خبر گیری کرنا۔ صفت نَاتِج: جانور، منتوجة اور بچہ، نتیجہ کہلاتا ہے، کہا جاتا ہے نَتَجَها ولدًا: اس نے سے جانور کا بچہ جنوایا۔ نَتَجَ الرجلُ الحامِلَ: حاملہ نے اس کے ہاں بچہ جنا۔ الشيءُ من الشيء: چیز کا چیز سے نکلنا۔ نَتَجَتِ البهيمةُ ولدًا: جانور کا بچہ جننا۔ الولدُ عند العامة: بچہ کا جوان ہونا۔ صفت ناتِج۔ کہا جاتا ہے نَتَجَتِ الريحُ السحابَ: ہوا کا بادل سے بارش برسوانا۔ نُتِجَ نتاجًات البهيمةُ ولدًا: جانور کا بچہ جننا۔ الولدُ: بچہ کا جنا جانا۔ القومُ: قوم کے مویشیوں کا جننا۔ نَتَّجَ: نَتَجَ کے معنی میں تشدید کثرت کے لئے آتا ہے۔ عوام نَتَجَ: اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنے کام سے کمائے۔ أَنتَجَ القومُ: لوگوں کی حاملہ اونٹنیوں اور بکریوں والا ہونا یا ان کی اونٹنیوں اور بکریوں کا جننا۔ ت البهيمةُ: جانور کا جننے کے قریب ہونا۔ صفت مُنتِج (مُنتَج نہیں کہا جاتا)۔ الشيءُ من الشيء: چیز سے چیز پیدا کرنا یا نکالنا۔ ت الريحُ السحابَ: ہوا کا بادل سے بارش برسوانا۔ أَنتَجَ ت البهيمةُ ولدًا: جانور کا بچہ جننا۔ تَنَتَّجَ تِ البهيمةُ: جانور کا جننے کی حالت میں ہونا۔ تَنَاتَجَ تِ الابلُ: اونٹنیوں کا بچہ دینا، جننا۔ انتَتَجَ ت الابلُ: اونٹنیوں کا بچے دینا، جننا۔ ت الناقةُ: اونٹنی کا کسی نامعلوم جگہ جا کر بچہ جننا۔ اِستَنتَجَ: بچہ جنوانا، مقدمات سے نتیجہ نکالنا۔ النَّاتِج (فا) للبهائم: جنانے والا۔ النِّتَاج: جانوروں کے بچے جننے کی حالت۔ بالناقةِ نِتَاجٌ: اونٹنی حاملہ ہے۔ النَّتُوج: حمل والا جانور۔ النتيجة جمع نَتَائِج: نتیجہ، بچہ (ع ح)۔ دیکھو فرض کہا جاتا ہے: غَنَمُ فلانٍ نَتَائِج: فلاں کی بکریاں ایک ہی عمر کی ہیں۔ المَنتِج: بچہ جننے کا وقت۔ المَنتِجة: جانور کی دبر۔

نتج: نَتَجَ ۔ نِتَاجًا ہ: بچہ جننا۔ من / عن: سے حاصل کرنا، کا نتیجہ ہونا، سے پیدا ہونا، سے نتیجہ نکلنا۔ أَنتَجَ ہ: بچہ جننا، کو بنانا، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، وجود میں لانا، کا باعث ہونا، کا باعث بننا۔ اِستَنتَجَ ہ من: سے نتیجہ اخذ کرنا کہ، کو لگنا، خیال کرنا، سمجھنا، سے نتیجہ پر پہنچنا کہ، سے مستنبط کرنا کہ، سے نتیجہ نکالنا کہ، سے نتیجہ اخذ کرنا کہ۔ نِتَاج: جننے کا کام یا عمل، جھول، چینگے پوٹے، بچہ یا بچے، اولاد، جانوروں کے بچے۔ نِتَاجُ الخَيلِ: بچھیرا، بچھیرے، بچھیری، بچھیریاں۔ نَتِيجَة جمع نَتَائِج: نتیجہ، پیداوار، انجام، فوری نتیجہ، پھل، میوے، وصولی، نفع، فائدہ، کارخانے کی مجموعی پیداوار، نتیجہ، استنباط، قیاس، استخراج، تقویم، جنتری، کلنڈر۔ نتيجةً: کی وجہ سے، کے نتیجے میں، بوجہ، بسبب۔ بالنتيجة: اس لئے، اس سبب سے، اس وجہ سے، لہٰذا چنانچہ، اس واسطے، بنا بریں، بدیں وجہ۔ نتيجة الجَيب: پاکٹ کلنڈر۔ نتيجة الحائط: دیوار کا کلنڈر۔ اِنتَاج: تخلیق، اولاد، نسل، پشت، پیڑھی، بنانا، صنعت۔ مشینی پیداوار، پیداوار، تربیت۔ ثمر آوری، زرخیزی، اشیاگری، بار آوری، تخلیقی سرگرمی۔ الانتاجُ الأدبي: علمی، ادبی انشا یا تصنیف۔ رسمُ الانتاج: آبکاری محصول (Exise Tax)۔ مَنتُوج جمع مَنتُوجات: مصنوعہ چیز، پیداوار، تخلیق، کام۔ مُنتِج: جننے والا، پیدا کرنے والا، پھلدار، بارآور، نتیجہ خیز، پیدا کرنے کے قابل، زرخیز، ذہن رسا، کثیر الاولاد، بہتات سے پیدا کرنے والا، فیصلہ کن، قطعی یا دوٹوک (شہادت)۔ بنانے والا، صنعت کار، کاریگر، تیار کرنے والا، فلم ساز (Film producer)۔ مُنتَجات: مصنوعات۔ مُنتَجَاتٌ زراعية: زرعی پیداواریں۔ مُستَنتِج: بنانے والا، صنعت کار، کاریگر، پیدا کرنے والا، تیار کرنے والا۔

نتح: نَتَحَ ۔ نَتْحًا و نُتُوحًا العرقُ: بدن سے پسینہ نکلنا۔ الدسمُ من الاناء: چکنائی کا برتن سے رسنا۔ ہ الحرُّ: کو گرمی کا پسینہ لانا۔ اِنتَتَحَ الشيءَ: کو اکھیڑنا۔ النَّتح (مص): پسینہ۔ زِقٌّ نَتَّاحٌ: رسنے اور ٹپکنے والی مشک۔ النُّتُوح (مص): درخت کا گوند۔ المَنتَح جمع مَنَاتِح: جسم کے مسام۔ المِنتَحة: سرین۔

نُتحة: رس، عرق، پسینہ۔

نتخ: ۱۔ نَتَخَ ۔ نَتْخًا الشيءَ: کو اکھیڑنا کہا جاتا ہے نَتَخَ القلاعُ الضرسَ: دانت اکھیڑنے والے نے داڑھ اکھیڑ ڈالی۔ نَتَخَتهُ المنيَّةُ من بين قومه: موت نے اس کو قوم میں سے نکال لیا۔ البازي اللحمَ: باز کا جھپٹے سے گوشت لے اڑنا۔ اليه ببصره: کو دیکھنا۔ المِنتاخ: زنبور، موچنا، چمٹا۔ نَتَختُ الشوكةَ من رجلي بالمنتاخ: میں نے موچنے سے کانٹا اپنے پاؤں سے نکال ڈالا۔

۲۔ نَتَخَ ۔ نَتْخًا الثوبَ بالذهب: سونے کے تاروں سے کپڑا بننا۔

۳۔ نَتَخَ ۔ نَتْخًا فلانًا: کو ذلیل کرنا۔

۴۔ نَتَخَ ۔ نَتِيخًا و نَتَخَ بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ علی مِلّةِ كذا: وہ کسی مذہب میں پختہ ہوگیا۔

نتر: نَتَرَ ۔ نَترًا الشيءَ: کو زور سے کھینچنا، اچک لینا۔ القوسَ: کمان کھینچنا۔ الثوبَ بالاصابع او الاضراس: کپڑے کو انگلیوں یا دانتوں سے پھاڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الكلامَ: سخت کلامی کرنا۔ ہ

سالرمح: کو نیزہ زور سے مارنا۔ نَتَرَ۔ نَتْرًا الشَّیْءَ: چیز کا خراب وضائع ہونا۔ اِنْتَتَرَ کھینچنا۔ ۔ فی مشیتہ: چلنے کا ارادہ کرنا۔ المناترۃ: نواتر کا مفرد۔ کمان جس کی تانت ٹوٹ گئی ہو۔ النَّتْر (مص) کمزوری، سستی، سختی، کہا جاتا ہے فابانَهُ بنتر میں اسے سختی سے ملا۔ طعنوا النتر وہ ایک دوسرے سے تیزوں سے خوب لڑے۔ النَّتْرَۃ جمع نترات نتر کا اسم مرۃ، پار گزرنے والی ضرب، کہا جاتا ہے: کلمتہ مُناترۃ: میں نے اس سے صاف صاف باتیں کیں۔

ض نتر ۔ نَتْرًا ہ کو زبردستی چھیننا، کو زور سے پکڑنا، کو جھٹکا دیکر چھین لینا، زبردستی لے لینا۔ نِتْرات: نائٹریٹ (Nitrate) (ایک قسم کا تیزابی عنصر) نترَوجن: نائٹروجن (Nitrogen) (ایک گیس جو ہوا کا تقریباً 4/5 حصہ ہے)۔

نتش ۱۔ نَتَشَ ۔ نَتْشًا الشوکۃ ونحوھا: کانٹا وغیرہ نکالنا ۔ الشَّعْرَ: بال اکھیڑنا، نوچنا۔ ۔ اللحمَ ونحوہٗ: چٹکی سے گوشت وغیرہ کھینچنا۔ ۔ الجراد الارضَ: ٹڈی کا سبزہ کھا جانا۔ الحجرَ برجلہ: پتھر کو پاؤں سے ہٹانا۔ ۔ الرجُل لعیالہ: اہل وعیال کے لئے کمانا۔ ۔ ہٗ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا، کہا جاتا ہے: ما نتشت من فلان شیئًا: میں نے فلاں سے کوئی چیز نہیں لی۔ نَتَشًا و تَنْتاشًا الرجُلَ: کی پیٹھ پیچھے بدگوئی کرنا۔ اِنْتَتَشَ النباتُ: نبات کا شروع شروع پھوٹنا۔ ۔ الحبُّ ۔ بیج کا بھیگ جانا اور شروع میں اُگے ہوئے سبزہ کو زمین میں گاڑ دینا۔ ۔ الثوبُ: کپڑا پرانا ہونا، کہا جاتا ہے: ما اخذ الا نتشا: اس نے صرف تھوڑا سا لیا۔ النتش: شروع میں اگا ہوا سبزہ، ناخن کی جڑ کی سفیدی۔ نتاتیش الدَّین: قرض کا بقایا۔ المنتاش: موچنا۔

ض نتش ۔ نتشا ہ کو نکالنا، زور لگا کر نکالنا، پھاڑنا، چھیننا، جھپٹنا، مارنا۔

نتض: نتض ۔ نُتوضًا الجلدُ: بیماری سے کھال چھلکے دار ہونا، کہا جاتا ہے: انتضت السنُّ السنَّ: کھمبیوں کی طرح دانت کا نکل کر اونچا ہونا۔

نتع: نتع ۔ نتوعًا الدم من الجرح او الماءُ من العینِ: خون کا زخم سے پانی کا چشمہ سے تھوڑا تھوڑا نکلنا۔ صفت: ناتع عوام کہتے ہیں نتعۃ: اس نے اس کو کھینچا۔ انتع الرجل: کو بہت پسینہ آنا۔ القیءُ: بہت قے ہونا۔

ض نتع ۔ نتوعًا: پانی کا پھوٹ نکلنا، بلبلے اٹھانا، قطرہ قطرہ ہو کر گرنا، بہنا، ٹپکنا، خارج ہونا، نکلنا، قطرہ قطرہ ٹپکنا۔

۔ ہ: کو لیجانا، اٹھانا، اونچا کرنا۔

نتغ: نتغ ۔ نَتْغًا الرجُلَ: پر عیب لگانا، کی غیبت کرنا۔ اَنْتَغَ: ہنسی اڑانا۔ ۔ ہٗ کی غیبت کرنا۔ المِنْتَغ: غیبت کرنے کا عادی۔

نتف: نتف ۔ نتفًا الریشَ او الشعرَ ونحوہٗ: بال و پر وغیرہ اکھیڑنا، نوچنا۔ ۔ فی القوسِ: کمان کو آہستہ کھینچنا۔ نتّفَ الریشَ او الشعرَ ونحوہٗ: بال و پر وغیرہ اکھیڑنا۔ اَنْتَفَ الکلاءُ: گھاس کا اکھیڑے جانے کے قابل ہو جانا۔ تنتّفَ و تناتفَ الشعرُ او الریشُ: بال و پر اکھڑنا۔ انتتفَ الریشَ او الشعرَ ونحوہٗ: بال و پر وغیرہ اکھیڑنا۔ ۔ الشعرُ او الریشُ: بال و پر اکھیڑا جانا۔ النتیف: بال اکھیڑا ہوا، کہا جاتا ہے غرابٌ نتیف الجناح: اکھیڑے ہوئے پروں والا کوا۔ النُّتْفَۃ جمع نُتَف: انگلیوں سے اکھیڑی ہوئی نبات وغیرہ۔ کہا جاتا ہے: اعطاہ نتفۃً من الطعام وغیرہ: اس نے اسے کھانے وغیرہ کی بہت تھوڑی مقدار دی۔ النتفۃ: تھوڑا علم (وغیرہ) سیکھا ہوا شخص، سطحی شخص۔ النُّتاف و النُّتافۃ: اکھیڑنے سے گرے ہوئے بال وغیرہ۔ المنتوف: داڑھی نوچنے کا شوقین۔ النتیف: بال اکھیڑا ہوا۔ المِنْتاف: موچنا۔

ض نتف ۔ نتفًا ہ: بال وغیرہ اکھیڑنا، نکالنا نوچنا۔ نُتَف ہ بمعنی سابق نُتْفۃ جمع نُتَف: (بالوں کا) گچھا، (دھاگے وغیرہ کا) لچھا، تھوڑی مقدار، کسی چیز کا تھوڑا سا۔ نتیف: اکھاڑا ہوا، نوچا ہوا، نکالا ہوا، پھاڑا ہوا۔

نتق: ۱۔ نَتَقَ ۔ نَتْقًا الجرابَ: توشہ دان جھاڑنا۔ ۔ الشیءَ: کو اونچا کرنا، ہلانا، پھاڑنا، پھیلانا۔ الجلدَ: کھال کھینچنا۔ ۔ ت المرأۃُ او الناقۃُ: عورت یا اونٹنی کا بہت اولاد والی یا بچے والی ہونا۔ صفت ناتق ومِنْتاق ۔ نُتوقًا: موٹا ہو کر بھر جانا۔ ۔ نتقًا ونتوقات الدابۃُ راکبھا و براکبھا: جانور کا اپنے سوار کو تھکا دینا۔ انتق: توشہ دان جھاڑنا، بہت اولاد والی عورت سے شادی کرنا۔ انتتقَ الشیءُ: کھنچ جانا۔ ۔ الجرابُ: توشہ دان کا جھڑنا۔ الناتِق (فا): آگ نکالنے والا چقماق، اپنے سوار کو تھکا دینے والا گھوڑا۔ النتق و النتاق فی اصطلاح العامۃ: عوام کی اصطلاح میں، قے، وہ اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں نتق: اس نے قے کی۔

۲۔ اَنْتَقَ: دوسرے کے مکان کے سامنے مکان بنانا۔ کہا جاتا ہے: بنی دارہٗ نِتاق داری: اس نے اپنا گھر میرے گھر کے سامنے بنایا۔

نتل: ۱۔ نتل ۔ نتلًا الشیءَ: چیز کو اپنے آگے (کی طرف) کھینچنا۔ ۔ الجرابَ: توشہ دان جھاڑنا اور اس میں موجود چیزوں کو نکال دینا۔ ۔ نتلًا ونتولًا ونتلانًا من بین اصحابہ: ساتھیوں سے آگے بڑھ جانا۔ تناتلَ النبتُ: نباتات کا گنجان ہونا، اور بعض کا بعض سے لمبا ہونا۔ اِنْتَتَلَ: سبقت لیجانا۔ استنتل من بین اصحابہ: ساتھیوں سے آگے بڑھ جانا۔ ۔ للامر: کام کے لئے تیار ہونا۔ ۔ القومُ علی الماءِ: پانی پر پہلے پہنچنا۔ النَّتْل و النَّتَل: پانی سے بھرے ہوئے شتر مرغ کے انڈے، جو سردیوں میں ریت میں دبائے جاتے ہیں۔ سخت گرمی میں جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان پر قبضہ کر کے ان میں سے پانی نکال کر پیتے ہیں۔ النتلۃ: وسیلہ، قرابت

۲۔ نتل ۔ نتلًا فلانًا: کو جھڑکنا۔

نتن: نتَنَ ۔ ونتِنَ ۔ نَتْنًا و نتُنَ ۔ نتانۃً ونتونۃً وانْتَنَ: بدبودار ہونا صفت نَتِن ونتین و مُنْتِن و مِنْتِن مؤنث نتنۃ و نتنی (جیسے زَمِن و زَمْنَی) نَتّنَ الشیءَ: کو بدبودار کرنا۔ النیتون (ن): ایک بدبودار درخت۔ المنتین جمع مناتین: بدبودار، کہا جاتا ہے۔ رجالٌ او آباطٌ مناتین: بدبودار آدمی، بدبودار بغلیں۔ المناتین واحد منتن: بدبودار جگہیں۔

ض نتن ۔ نُتِن ۔ نتنًا و نتن ۔ نتانۃ و نتونۃ: بدبودار ہونا، گلنا، سڑنا، گلا سڑا ہو جانا، سخت گندا یا خراب ہو جانا۔ نتّنَ ہ کو گلا نا سڑانا۔ انتن: بدبودار ہونا، گلنا سڑنا، نتن و نتانۃ: بدبو، سڑاند، عفونت، گلنا سڑنا، بوسیدگی، نتِن: بدبودار، گلا، سڑا، بخل کا بخل والا، کنجوس، بخیل، مُنتِن: گلا سڑا، منتین: بدبودار، گلا سڑا۔

نتو: نتا ینتو نتوًّا العضوُ: عضو کا متورم ہونا سوجنا صفت: ناتٍ۔ اَنْتی اِنْتاءً: پیچھے ہٹنا، تاخیر کرنا۔ ۔ ہٗ: کا ہم شکل و ہم سیرت ہونا، شکل و سیرت میں کے موافق ہونا۔ تنتی علیہ: پر حملہ کرنا۔ استنتی استنتاءً الدمّل: پھنسی پھوٹنا۔

نث: نثَّ ۔ نثًّا الخبرَ: خبر افشا کرنا۔ ۔ الجرحَ: زخم پر تیل لگانا، مرہم لگانا۔ ۔ نثًّا ونثیثًا الزّقُّ: مشک کا رسنا۔ ۔ الرجُلُ: موٹاپے کی وجہ سے پسینہ دار ہونا۔ ۔ العظمُ: ہڈی سے چربی بہنا۔ تناثَّ القومُ الاخبارَ: ایک دوسرے کو خبریں بتانا۔ النثّ (مص): نمناک دیوار۔ المِنثاث: زخم پر ملنے کا تیل۔ النثاث والمِنثّ: بات یا راز کو بہت پھیلانے والا۔ النثّاث: غیبت کرنے والے۔ مفرد: ناثّ۔ النثیثۃ: مشک سے ٹپکا ہوا۔ المنثّۃ جمع مناثّ و مِنثاث: اون کا ٹکڑا جس کے ساتھ زخم پر تیل لگایا جاتا ہے۔

نثج: نَثَجَ ـِ نَثْجًا بطنَهُ بالسكين: چھری سے پیٹ پھاڑنا۔ ـــ في مابطنه: آنتوں کو خالی کرنا۔ اِسْتَنْثَجَ احدُ العدلَين: ایک طرف کا بوجھ ڈھیلا ہونا۔ النَّثِجُ: بزدل بے خیر۔ المِنْثَجَة: سرین۔

نثد: نَثَدَ ـُ نُثُودًا الرجلُ: ٹھہرنا۔ ـــ ت الکمأۃُ: سانپ کی چھتری کا اُگنا۔

نثر: ۱۔ نَثَرَ ـُ نَثْرًا و نِثَارًا: نثر میں کلام کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو بکھیرنا، چھڑکنا۔ ـــ الدرع عنه: زرہ کو اتار دینا، کہا جاتا ہے نثرت المراۃ بطنها: عورت کے بہت بچے ہوئے اخذ فلانٌ دِرعًا فنثرها علی نفسه: فلاں نے زرہ لی اور اسے اپنے اوپر پھیلا لیا۔ ـــ نَثِرَ ات الـدابّةُ: جانور کا چھینکنا۔ کہا گیا کہ نثیر جانوروں اور انٹوں کے لئے اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے عطاس لوگوں کے لئے۔ نَثَّرَ الشيءَ: کو بکھیرنا۔ اَنْثَرَ ناک جھاڑنا۔ ـ ہُ: کو ناک کے بل گرانا۔
تَنَثَّرَ الشيءُ: بکھرنا۔ تَنَاثَرَ الشيءُ: بکھرنا کہا جاتا ہے۔ تَـنَـاثَرَ القومُ: لوگ بیمار ہو کر مر گئے۔ اِنْتَثَرَ الشيءُ: بکھرنا۔ ـــ و اِسْتَنْثَرَ: ناک میں پانی ڈال کر اس کو جھاڑنا۔ النَّاثِر (فا): نثر بولنے والا یا لکھنے والا۔ نخلةٌ ناثِر: کچی کھجوریں گرانے والا کھجور کا درخت۔ النَّثْر (مص): نثر، جو منظوم نہ ہو۔ النَّثْرَة: نثر کا اسم مرہ۔ نثر کا ایک ٹکڑا، نتھنا اور اس کا ارد گرد، چھینک۔ نَثْرَةُ الأسد (فلك): دو ستارے جن کے درمیان بالشت بھر حصہ سفیدی کا دھبا ہوتا ہے۔ گویا بادل کا ٹکڑا ہو۔ اسے انف الاسد بھی کہا جاتا ہے۔ قمر کی ایک منزل۔ النَّثَر: بکھری ہوئی چیز۔ المِنْثِر و المِنْثَر و النَّيْثُران: باتونی، راز افشا کرنے والا۔ النُّثَار و النُّثَارة: بکھری ہوئی چیزیں۔ النِّثَار (مص): روپیہ پھل وغیرہ جو شادی کے موقعہ پر لوگوں میں بکھیرا ہوتا ہے۔ رجُلٌ نَثُورٌ و امراۃٌ نَثُور: بہت اولاد والا مرد بہت اولاد والی عورت۔ النَّثِير: بکھیرا ہوا، کہا جاتا ہے۔ کأنّ لفظهُ نثير الدرّ و الدرّ النثير: جیسے اس کا لفظ بکھرا ہوا موتی ہے۔ المِنْثَار: کچی کھجوریں گرانے والا کھجور کا درخت۔ المُنَثَّر (مفع): کمزور، ناکارہ، بے خیر۔ عند العامة (عوام کے نزدیک): رنگین نقوش والا کپڑا، اکثر لوگ ثا کو تا بولتے ہیں۔ المَنْثُور (مفع)۔ ـــ واحد مَنْثُورَۃ (ن): ایک تیز خوشبو والا پودا۔ ـــ من الکلام: غیر منظوم، نثر۔

۲۔ النَّثْرَة: کشادہ زرہ۔

۳۔ نَثَرَ ـُ نَثْرًا و نِثَارًا ه علی: کو پر بکھیرنا، منتشر کرنا، پھیلانا، چھڑکنا۔ ـــ ه: کو نثر میں لکھنا۔ نَثَّرَ ه: کو ادھر ادھر بکھیرنا، منتشر کرنا، پھیلانا۔ تَـنَاثَرَ و اِنْتَثَرَ: ادھر ادھر بکھرنا، پھیلنا، منتشر ہونا، واقع ہونا۔ نَثْر: بکھرنا یا بکھیرنا، پراگندگی، انتشار، نثر۔ نَثْرِي: نثر کا، نثر کے متعلق، نثری، نثر میں، تھوڑا، کم، غیر اہم، معمولی، ادنیٰ سا، ناچیز، ذرا سا، قلیل۔ نَثْرِیات: متفرقات، متفرقات کا مجموعہ۔ مصاریفُ نَثْرِیَّةٌ: ہنگامی اخراجات، ضمنی اخراجات۔ نُثَار: بکھرے ہوئے ٹکڑے، تیرتے ذرات، دھول، گرد، غبار، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چمکدار رنگین، پرچیاں یا نچھاور کی جانے والی مٹھائیاں۔
نَثِير: بکھرا ہوا، پھیلا ہوا، منتشر۔ تَنَاثُر: پراگندگی، انتشار۔ نَاثِر: نثر لکھنے والا، نثر نویس، نثر نگار۔ مَنْثُور: بکھرا ہوا، پھیلا ہوا، منتشر، نثری، نثر، ایک پودا جس میں خوشبودار پھول آتے ہیں۔ ایک قسم کا پھول جس سے لونگ کی خوشبو آتی ہے۔ مُتَنَاثِر: بکھرا ہوا، پھیلا ہوا، منتشر۔

نثط: ۱۔ نَثَطَ ـُ نَثْطًا: کو خاموش کرنے کے لئے زمین پر دبانا۔ ـ فلانًا: کو بوجھل کرنا۔ ـــ نَثْطًا و نُثُوطًا: ساکن ہونا، قرار پانا۔ نَثَّطَهُ: کو خاموش کرنا، ٹھنڈا کرنا، آرام دینا۔

۲۔ نَثَطَ ـُ نُثُوطًا تِ الکمأۃُ: سانپ کی چھتری کا زمین سے نکلنا۔

نثع: اَنْثَعَ: بہت قے کرنا۔ ـــ القيءُ او الدمُ: قے یا خون کا نکلنا۔

نثل: ۱۔ نَثَلَ ـُ نَثْلًا الفرسُ و کلُّ ذی حافرٍ: گھوڑے اور ہر سم والے جانور کا لید کرنا۔ ـــ ـِ نَثْلًا البئرَ: کنویں سے مٹی نکالنا۔ ـــ الجراب: توشہ دان جھاڑ کر خالی کرنا۔ الکِنانَةَ: ترکش کو تیروں سے خالی کرنا اور انہیں بکھیرنا۔ ـــ الدرعَ عنه: زرہ کو سے اتارنا، پھینکنا۔ کہا جاتا ہے۔ نُثِلَت حفرتُهُ: اس کی قبر کھودی گئی۔ اَنْثَلَ البِئرَ: کنویں سے مٹی نکالنا۔ اِنْتَثَلَ البئرَ و الجرابَ و الکنانةَ: کنویں سے مٹی نکالنا، توشہ دان جھاڑ کر خالی کرنا، ترکش سے تیر نکال کر بکھیرنا۔ ـــ الدرعَ عنه: سے زرہ اتارنا، پھینکنا۔ اِسْتَنْثَلَ الکِنانةَ: ترکش کو تیروں سے خالی کر کے انہیں بکھیرنا۔ النَّثَل: کھودا ہوا، کہا جاتا ہے۔ بئرُكَ نَثَلٌ: تمہارا کنواں کھودا ہوا ہے۔ النَّثْلَة: نثل کا اسم مرہ۔ النُّثَالَة: کنویں سے نکلی ہوئی مٹی۔ بقیہ۔ النَّثِيل: لید، گوبر۔ النَّثِيلة: کنویں سے نکلی ہوئی مٹی۔ المِنْثَلَة: زنبیل۔

۲۔ نَثَلَ ـــ ـُ نَثْلًا علی فلان درعه: کو زرہ پہنانا۔ ـــ اللحمَ فی القدر: گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈالنا۔ تَـنَاثَلَ القومُ الیه: پر اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔ اِنْتَثَلَ علی فلان درعه: کو زرہ پہنانا۔ ـــ اللحمَ فی القدر: گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈالنا۔ النَّثْلَة: کشادہ زرہ۔ النَّثِيلَة: موٹا گوشت۔

۳۔ النَّثْلَة: مونچھوں کے درمیان کا گڑھا۔

نثم: نَثَمَ ـِ نَثْمًا و انْتَثَمَ: فحش بکنا۔

نثو: نَثَا یَنْثُو نَثْوًا الحدیثَ: بات پھیلانا۔ ـــ الشيءَ: کو متفرق کرنا۔ ـــ فلانًا: کی غیبت کرنا۔ علیه قولًا: کی طرف سے بات کی خبر دینا۔ تَنَاثَی القومُ الحدیثَ: ایک دوسرے میں بات پھیلانا۔ ـــ القومُ الشيءَ: ایک دوسرے کو کچھ یاد دلانا۔ النَّاثِي (فا): غیبت کرنے والا۔ النَّثَا: کسی کے بارے میں اچھی یا بری خبر۔ النَّثْوَة: لوگوں کی عیب جوئی۔

نثی: نَثَی یَنْثِي نَثْیًا الخبرَ: خبر بیان کرنا، پھیلانا۔ اَنْثَی فلانًا: کی غیبت کرنا۔ ـــ من الشيءِ: پر ناک چڑھانا۔

نج: ۱۔ نَجَّ ـُ نَجًّا الشيءَ من فيه: کو منہ سے پھینکنا۔ ـــ نَجًّا و نَجِيجًا تِ القرحةُ: زخم سے پیپ وغیرہ بہنا۔ الرجلُ: جلدی کرنا۔ صفت نَجُوج۔

۲۔ نَجْنَجَ نَجْنَجَةً فی رأیه: کی رائے پر متحیر و مضطرب ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو ہلانا۔ تَنَجْنَجَ الرجلُ: متحیر ہونا۔ ـــ الشيءُ: متحرک ہونا، ہلنا۔ ـــ الامرَ: کا پختہ ارادہ نہ کرنا۔

۳۔ نَجْنَجَ نَجْنَجَةً تْ عینُهُ: کی آنکھ کا دھنسنا۔ ـــ الابلَ: اونٹوں کو چراگاہ سے روکنا، پانی سے واپس کرنا۔ ـــ فلانًا عنه: کو سے منع کرنا۔

نجأ: نَجَأَ ـَ نَجْأً و تَنَجَّأَ و انْتَجَأَهُ: کو نظر بد لگانا۔ رجلٌ نَجُوءُ العین و نَجُوءُها و نَجِئُها و نَجِيئُها: بدنظر، بہت بد نظر لگانے والا۔ النَّجْأَةُ السائل: درویش کی کھانے کی طرف بہت للچائی ہوئی نظر۔ اسی سے ہے ضرب المثل رُدُّوا نجأۃ السائل باللقمة: سوالی کو کچھ کھانے کو دے کر اسے اپنے کھانے کی طرف للچائی ہوئی نظر سے روکو۔

نجب: اَنْجَبَ ـُ نَجْبًا و نَجَبَ الشجرةَ: درخت کی چھال اُتارنا۔ نَجُبَ ـُ نَجَابَةً الولدُ: بچے کا شریف الاصل ہونا۔ اچھے صفات والا ہونا۔ صفت نجیب۔ اَنْجَبَ: شریف الاصل ہونا، اچھے صفات والا ہونا۔ ـــ الرجلُ: شریف اولاد کا باپ ہونا کہا جاتا ہے اَنْجَبَ بـه ابواه: اسے ماں باپ نے شریف النسل جنا۔ اِنْتَجَبَ الشيءَ: کو چننا، پسند کرنا۔ ـــ الشجرةَ:

درخت کی چھال اتارنا۔ اِسْتَنْحَبَ: شرفاء کا طالب ہونا۔ النَحُب: سخی، شریف۔ النَحَبُ من الشجر (ن): درخت کی چھال یا جڑوں کی چھال۔ النُحِبَة: سخی، شریف۔ النَجَابَة: نَجبُ کا مصدر، خاندانی شرافت۔ النجیب جمع أنجَاب و نُجَباءُ نُجُب م نَجیب و نجیبَة جمع نَجَائِب: شریف، شریف خاندان، عمدہ، اعلیٰ۔ نَجائِبُ الشي: چیز کے خالص حصے، گودا، مغز جس پر چھلکا نہ ہو۔ نَواجِبُ الشي: گودا، مغز جس پر چھلکا نہ ہو۔ المِنْجَاب (مذکر و مونث) جمع مَناجِیب: شریف بیٹوں والا۔ شریف بیٹوں والی۔ المُنْجِب جمع مَناجِب م مُنْجِبَة: شریف بیٹوں والا۔

٢- أنجبَ الرجلُ: بزدل بیٹے کا باپ ہونا۔

ⓒ نَجُبَ ـ نَجَابَةً: خاندانی ہونا، امیرانہ انداز والا ہونا، عالی نسب ہونا، شریف ہونا، ممتاز ہونا، عمدہ و اعلیٰ ہونا، عالی منش ہونا، عالی ظرف ہونا، سخی و فیاض ہونا، فراخدل ہونا۔ أنْجَبَ اوپر والے معنی۔ نیز أنجَبَ ہ بچہ کو جنم دینا، جننا، کا باپ ہونا۔ أنجب منها: کے اس (عورت) سے بچے ہونا۔ انتَجَبَ و إسْتَنْجَبَ ہ کو چننا، منتخب کرنا، پسند کرنا، (میں سے) چن لینا، نَجُب و نُجَبَة: عالی منش، عالی ظرف، فیاض، سخی، فراخدل۔ نَجَابَة: شرافت، نجابت، شریف نسب، بلند منصب و مقام، بزرگی، فضیلت، سربلندی، وجہ و شرف بنائے فضیلت، برتری کمال۔ نَجیب جمع نُجُب و نُجَباء و أنجاب: شریف النسل، خاندانی، شریف، ممتاز، امیرانہ، خاندانی امیر، نجیب، عمدہ، اعلیٰ، برتر، نمایاں، افضل۔ نَجَاب: سانڈنی سوار، نامہ بر، قاصد، ہرکارہ۔ إنتجاب: پسند، انتخاب، پسندیدگی۔

نحث: ١- نَحَثَ ـ نَحْثًا و تَنَحَّثَ الشيَ: کو نکالنا۔ عن الامر: پر بحث کرنا، نکتہ چینی کرنا۔ القومَ: سے فریاد کرنا، سے مدد کی اپیل کرنا۔ تَنَاجَثَ القومُ الاخبارَ: ایک دوسرے کو خبروں سے واقف کرنا۔ انتَجَثَ الشيَ: کو نکالنا۔ إسْتَنْجَثَ الشيَ: کو نکالنا۔ ـــ للشي: کے درپے ہونا۔ رجُلٌ نَجِثٌ: خبروں کی جستجو رکھنے والا۔ النَجَّاث: امور کی بہت چھان بین کرنے والا۔ النَجِیث: نشانہ، پوشیدہ راز، کہا جاتا ہے۔ بدا نجیثُ القوم: قوم کا پوشیدہ راز ظاہر ہوگیا۔ نجیثُ البئرِ: کنویں سے نکالی ہوئی مٹی۔ النجیثَة: بری خبر جو ظاہر ہو جائے۔ نجیثَةُ البئر: کنویں سے نکالی ہوئی مٹی۔

٢- النَحَثُ و النُحُثُ جمع أنجاث: دل کے اوپر کی جھلی۔ زرہ۔ النجیث: سست رفتار۔

نجح: نَجَحَ ـ نَجْحًا و نُجْحًا و نَجَاحًا الامرُ: آسان ہونا، سہل ہونا۔ ـــ فلانٌ بحاجته: اپنی حاجت حاصل کرنا کہا جاتا ہے: أنجَحَ اللّٰهُ طلبتكَ فنجحتَ: اللہ تعالیٰ نے تیری طلب میں تجھے کامیاب کیا۔ نَجَّحَ ہ: کو کامیاب کرنا۔ کامیاب بنانا۔ أنجَحَ: کامیاب ہونا۔ ما أفْلَحَ فلانٌ ولا أنجَعَ: فلاں شخص نہ تو خوش ہوا نہ کامیاب۔ کہا جاتا ہے۔ انجح اللّٰهُ حاجتهٗ: اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ ـــ ت حاجتهٗ: کی ضرورت پوری ہونا۔ جس کی ضرورت پوری ہو جائے اسے مُنجِح جمع مَناجِح و مناجیح کہتے ہیں۔ الباطلُ بفلان: فلاں پر باطل کا غالب آنا۔ ـــ فلانٌ بالباطل: فلاں کا باطل پر غالب ہونا۔ تَنَجَّحَ الحاجةَ: وعدہ کرنے والے سے حاجت روائی کا تقاضا کرنا۔ تَنَاجَحَ ت علیه احلامُهٗ او مساعیه: کے خوابوں یا کوششوں کا برابر سچا نکلنا۔ إسْتَنْجَحَ فلانًا حاجتَهٗ: سے اپنی ضروری پوری کرنے کے لئے کہنا۔ الناجح فا۔ سیرٌ ناجح: بہت تیز چال۔ النُجح و النَجَاح نَجَحَ کے مصدر یا اسم ہیں۔ النَجَاحة: صبر۔ النَجیح م نَجیحَة: صائب الرای (کہا جاتا ہے: رأیٌ نجیح: صائب رائے) جس کے امور کامیاب ہوں۔ صبر کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: نفسٌ نَجیحَة: صابر نفس سیرٌ نجیح: تیز اور جفاکش چال۔ مکانٌ نجیحٌ: قریب جگہ۔

ⓒ نَجَحَ ـ نَجْحًا و نُجْحًا و نَجَاحًا: اچھا یا ٹھیک ہونا یا نکلنا یا ثابت ہونا، کامیاب ہونا۔ ـ في: میں کامیاب ہونا، کامیابی حاصل کرنا۔ ـــ في الامتحان: امتحان پاس کرنا۔ امتحان میں کامیاب ہونا۔ نَجَّحَ و أنجَحَ ہ: کو کامیابی عطا کرنا۔ ـــ ہ / ہ: کو کامیاب ہونے دینا، کامیاب کرنا۔ ـــ ہ: کو کامیاب یا کامران بنانا۔ نُجْحٌ: موافق اور کامیاب نتیجہ، خوش آئند انجام یا خاتمہ، کامیابی، تسلی بخش ارتقا، نشوونما یا ترقی، اچھی ترقی، نَجَاح: مناسب اور کامیاب نتیجہ، خوش آئند انجام، کامیابی، کامرانی، تسلی بخش ارتقا، نشوونما، یا ترقی، اچھی ترقی، (امتحان) پاس کرنا۔ لَقِيَ نجاحًا: کامیابی حاصل کرنا، کامیاب ہونا، کامیابی سے ہمکنار ہونا، نجیح: درست یا دانشمندانہ (مشورہ، رائے) إنجاح: کامیابی، ناجح: کامیاب، پاس (ہونے والا)، جس نے (امتحان) پاس کرلیا ہو۔

نجخ: ١- نَجَخَ ـ نَجْخًا النوءُ: پتھر کا جوش میں آنا۔ السیلُ: سیلاب کا یکایک امنڈ آنا۔ البئرَ: کنواں کھودنا۔ تَنَاجَخَ الموجُ: موج کا ٹکرانا۔ الناجِخُ (فا): کھانسنے والا، شور کرنے والا سمندر۔ ناجخُ البحر: سمندر کا شور۔ سیلٌ ناجخٌ: بہت تیز بہنے والا اور زمین میں گڑھے ڈالنے والا سیلاب۔ نَاجِخَةُ الماء: پانی کی آواز۔ النَجَاخ: کھانسنے والے کی آواز۔ نَجَخَاتُ الماء: پانی کی بوچھاریں النَجُوخ: شور کرنے والا سمندر۔ نجیخ الماء: پانی کی آواز۔

٢- نَجَخَ ـ نَجْخًا: فخر کرنا۔ تَنَاجَخَ الرجلان: آپس میں فخر کرنا۔

٣- نَجِخَ ـــ نَجَخًا البعیرُ: اونٹ کا بدہضمی والا ہونا صفت نَجِخٌ۔

نجد: ١- نَجَدَ ـ نُجْدًا ہ: پر غالب آنا، کی مدد کرنا۔ ـــ نُجُودًا: واضح ہونا، ظاہر ہونا صفت نَاجِد و نَجُد۔ ـــ الامرُ: واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ ـــ الشيُ من الارض: چیز کا زمین سے نکلنا۔ ـــ البدنُ عرَقًا: بدن سے پسینہ بہنا۔ نَجِدَ ـ نَجَدًا: تھکنا۔ الرجُلُ: کو کام یا گھبراہٹ سے پسینہ آنا صفت نَجِد۔ نَجُدَ ـــ نُجْدَةً و نَجَادَةً: بہادر ہونا، دوسروں سے جو کام نہ ہو سکیں ان کو کرگزرنا۔ نُجِدَ نَجْدًا الرجُلُ: غمگین ہونا صفت مَنْجُود و نَجِید۔ نَجَّدَ الرجُلُ: دوڑنا۔ ـــ الدهرُ فلانًا: کو زمانہ کا تجربہ کار بنانا۔ البیتَ: گھر سجانا۔ النَجَّادُ الفرشَ: فرش ساز کا فرش کو درست کرنا، سینا۔ نَاجَدَ مُنَاجَدَةً ہ: کی مدد کرنا، کو لڑائی کیلئے نکالنا، کی مخالفت کرنا، أنجَدَ البناءُ: عمارت کا بلند ہونا۔ ـــ ہ: کو مدد دینا۔ الدعوةَ: دعوت قبول کرنا۔ ـــ الرجُلُ: پسینہ بہانا۔ ملک نجد میں آنا یا جانا۔ ـــ ت السماءُ: آسمان کا صاف ہونا۔ بے ابر ہونا۔ تَنَجَّدَ الشيُ: اونچا ہونا۔ إسْتَنْجَدَ: بہادر ہونا۔ ـــ فلانٌ: کمزوری کے بعد قوی ہونا۔ ـــ فلانًا و به: سے مدد چاہنا۔ ـــ علیه: پر دلیر ہونا، جس سے وہ پہلے ڈرتا تھا۔ النَاجِد م نَاجِدَة جمع نَوَاجِد (فا) النَوَاجِد: چربی کی دھاریاں۔ النَجْد (مص): بلند راستہ، پستان، غم، بے چینی، ماہر رہنما۔ جمع أنجُدُ و نُجُد و نِجَادِ و نُجُود و أنجَاد و أنجِدَة: بلند زمین، کہا جاتا ہے۔ هو طَلَّاعُ أنجُدٍ و أنجِدَةٍ و نِجَادٍ و طلّاعُ النجاد: وہ کاموں کا منتظم اور مشکلات کو اچھی طرح سر کرنے والا ہے۔ ـــ جمع نِجَاد و نُجُود: گھر کو زیبائش دینے والی اشیاء جیسے فروش، دریاں، تکیے وغیرہ۔ رجُلٌ نَجُدٌ جمع أنجَاد: بہادر اور ایسے کام کر گزرنے والا جو دوسرے نہ کر سکے ہوں۔ دعوت کو جلد قبول کرنے والا۔ نَجُد:

سعودی عرب کے ایک صوبے کا نام۔النَجد جمع
أنجاد: پسینہ، گھر کا سامان جیسے فرنیچر، پردے وغیرہ۔
رَجُلٌ نَجد و نَجُدٌ جمع نُجاد بمعنی رَجُلٌ
نَجُدٌ۔النَجدَہ (مص) جمع نَجَدات اسم مرۃ۔
شجاعت لڑائی، سختی، قوت، طاقت، (کہا جاتا ہے لاقی
فلانٌ نجدۃ: فلاں نے سختی کا سامنا کیا)۔گھبراہٹ۔
النِجاد: تلوار کا پرتلہ طویل النِجاد: طویل قامت
سے کنایہ ہے۔النِجادَۃ: فرش سازی کا پیشہ۔صوفہ
سازی کا پیشہ۔النَجّاد: فرش ساز، صوفہ ساز۔
نُجودُالبیت: مکان کی آرائش کیلئے دیواروں کے
پردے۔النَجود من النساء جمع نُجُد: شریف
زادی، خاندانی عورت، عقلمند عورت ــــ من الابل و
الاُتُن: لمبی گردن والی اونٹنی یا گدھی۔ جو چلنے میں آگے
رہنے والی ہو۔النجید جمع نُجُد و نُجَداء: بہادر اور
ایسے مشکل کام کرنے والا جو دوسرے نہ کرسکیں ــــ
(ح): شیر، غمگین۔رَجُلٌ مِنجاد: بہت مدد کرنے والا
المِنجَد جمع مَناجد: چھوٹا پہاڑ، موتیوں اور سونے کی
مالا۔المِنجَدَۃ جمع مَناجد: جانور کو ہانکنے کی لاٹھی اون
وغیرہ دھننے کی لکڑی یا آلہ۔المَنجُود (مفع): غمگین۔
۲نَجِدَ ـ نَجَدًا: کند ذہن ہونا۔
۳اَنجَدَ الرجُلُ: اپنے اہل سے قریب ہونا۔
۴النَاجُود جمع نَواجید: شراب کا برتن، شراب (ن)
زعفران۔النَجُد: جگہ جہاں کوئی درخت نہ ہو۔
النَجود جمع نَواجید: خون۔المنجود: ہلاک
ہونے والا۔
(ن) نَجَدَ ـ نَجدًا ہ: کی مدد کرنا، کو مدد دینا، کی تائید کرنا، کا
ساتھ نہ چھوڑنا۔نَجِدَ ـ نَجَدًا: کو پسینہ آنا۔نَجَّدَ ہ:
کو ساز و سامان سے آراستہ کرنا، میں فرنیچر لگانا، کی
پوشش کرنا، (کمرے میں) پردے وغیرہ لگانا ــــ
القطن: روئی تو بنا، تومنا، دھننا۔ناجَدَ بمعنی نَجَدَ۔
أنجَدَ بمعنی نَجَدَ نیز اَنجَدَ: عرب کے پہاڑی علاقہ
میں سفر کرنا۔استَنجَدہ: سے مدد طلب کرنا۔ سے مدد
کی اپیل کرنا ـ ب: سے مدد طلب کرنا ــــ علی:
کے ساتھ بھڑنا، بے تکلفی سے پیش آنا (یا سے کام لینا)
نَجد جمع نُجاد: پہاڑی علاقہ، کوہستان، اونچا علاقہ،
سطح مرتفع (Plateau) عرب کا پہاڑی علاقہ جسے نجد
کہتے ہیں نَجدی: نجد کا، نجدی، نجد کا باشندہ
نَجدَۃ جمع نَجَدات: مدد، امداد، آڑے، یا آڑے وقت پر یا
میں مدد، امداد، اعانت، تائید، حمایت، ہنگامی صورت
حال، بحران، مصیبت، مشکل، سخت خطرہ، آفت،
بدبختی، ہمت، دلاوری، جرأت، شجاعت، دلیری، بے
خوفی جمع نَجَدات: کمک Reiforcement۔
النجدۃ المِنجدۃ: مدد، مدد بولیس النجدہ: ہنگامی
پولیس، بلوہ توڑ پولیس نِجاد: پرتلہ طویل
النجاد: لمبا، لمبا تڑنگا۔نَجّاد: پوشش والا، صوفے
بنانے والا جمع نَجّادۃ: ایک قسم کا بوائے سکاؤٹ (شام
میں)۔نِجادۃ: صوفہ ساز کا پیشہ، صوفہ سازی، صوفے
کرسیاں وغیرہ کمرے کا ساز و سامان تنجید:
کرسیوں اور صوفوں میں کمانیاں اور گدے لگانا،
غلاف چڑھانا، پردے لگانا، ایسے کام۔
نجذ: (ض) نَجَذَ ـ نَجذًا ہ: کو داڑھوں سے کاٹنا، پر اصرار
کرنا۔نَجَّذَہ: کا تجربہ کرنا، کو تجربہ کار بنانا۔نَجَّذَتہُ
التجاربُ: کو تجربوں کا تجربہ کار بنانا۔نَجَّذتہُ البلایا:
مصیبتوں میں مبتلا ہونا۔الناجذ (فا) نواجذ کا واحد:
داڑھ، کہا جاتا ہے عَضَّ علی ناجذہ: وہ بالغ
ہو گیا ضحک حتی بدت نواجذُہُ: وہ بہت ہنسا۔
ابدت الحربُ ناجذیہا: جنگ شدت اختیار کرگئی۔
عَضَّ الرجُلُ علی ناجذیہ: مرد نے صبر کیا۔
۲المَناجذ: جُلَذ کی جمع۔ چھچھوندریں۔
(ن) نَجَذَ ـ نَجذًا ہ: کے پیچھے پڑ جانا سے اصرار کرنا، پر مصر
ہونا۔مَناجذ: چھچھوندریں، کور موشیں مَناجذ جمع
نَواجذ: داڑھ۔ابدی عن نواجذہ: اپنے دانت
دکھانا ــــ ل: سے معاندانہ اور دھمکی آمیز رویے کا
مظاہرہ کرنا۔عَضَّ بالنَواجذ: دانت پیسنا۔عضّ
علی ناجذیہ: بالغ ہونا۔عضّ بالنواجذ علی:
کے ساتھ ہٹ دھرمی سے چمٹ جانا، سے مستقل مزاجی
سے وفاداری کرنا۔
نجر: (س) نَجِرَ ـ نَجَرًا الیومُ: دن کا گرم ہونا ــــ الماءَ:
گرم پتھروں سے پانی گرم کرنا۔نَجِر ــــ نَجَرًا: کو
سخت پیاس لگنا۔اَنجَرَ فلانًا: کو دودھ اور آٹے کا بنا ہوا
کھانا پیش کرنا۔الناجِر: گرمیوں کے مہینوں میں سے
ہر ایک مہینہ۔النَجَر (مص): گرمی۔النَجَر: سخت
پیاس، نہ بجھنے والی پیاس۔ابلٌ نَجرۃ: سخت پیاسے
اونٹ۔النَجران: پیاسا۔ابلٌ نَجری ونَجاری:
سخت پیاسے اونٹ۔النجیرۃ: گرم پتھروں پر گرم کیا
ہوا پانی (ط): دودھ آٹے اور گھی سے تیار کیا ہوا کھانا۔
المِنجَرۃ: گرم پتھر جس سے پانی گرم کیا جاتا ہے۔
۲نَجَرَ ـ نَجرًا الخشبَ: لکڑی کو چھیلنا اور ہموار کرنا۔
النَجر: اصل، حسب النِجار والنُجار: اصل،
حسب۔النِجارۃ: بڑھئی کا پیشہ۔النُجارۃ: لکڑی کی
چھیلن۔النَجران: دروازہ کی چولی۔النَجّار:
بڑھئی۔المِنجَر: لکڑی کا تختہ، بدلہ [illegible] کہا جاتا
ہے۔لأنجُرَنَّ نَجیرکَ: میں تمہیں تمہارے حق
کے مطابق انعام دوں گا۔الأنجَر والأنجَرۃ جمع
اَناجِر: کشتی یا جہاز کا لنگر (فارسی لفظ)۔المِنجَر: رندہ
(لکڑی ہموار کرنے کا آلہ)۔المَنجُور (مفع):
کنویں سے پانی نکالنے کی چرخی۔المِنجِیرَۃ:
بانسری۔
۳نَجَرَ ـ نَجرًا الرجُلَ: کو مار کر ہٹانا ــــ الابلَ:
اونٹوں کو ہانکنا۔المِنجَرُ: اونٹوں کو بہت تیز ہانکنے
والا۔
۴نَجَرَ ـ نَجرًا الشیءَ: کا ارادہ کرنا۔المَنجَر: مقصد جو
راستہ سے ہٹا ہوا نہ ہو۔
۵النَجر: رنگ۔النِجار و النُجار: رنگ۔
(ن) نَجَرَ ـ نَجرًا ہ: لکڑی کاٹنا، پر منبت کاری کرنا، کندہ
کاری کرنا، کندہ کرنا، کو ہموار کرنا، پر رندہ کرنا۔نَجرٌ:
گرمی، دن کا گرم وقت۔نَجّار جمع نَجّارُون: بڑھئی،
فرنیچر بنانے والا، فرنیچر ساز، لکڑی کا ہلکا کام کرنے
والا۔نُجار: اصل، حسب، نسل، جڑ۔نُجارۃ: لکڑی
کی چھیلن۔نِجارۃ: بڑھئی کا کام، فرنیچر سازی۔مِنجَر
جمع مَناجر: رندہ۔مَنجُور: چرخی، پن پہیہ، بڑھئی کا
کام، تختہ بندی، لکڑی کا حاشیہ۔
نجز: نَجَزَ ـ نَجزًا الحاجۃَ: ضرورت پوری کرنا۔
بالوعد: وعدہ میں جلدی کرنا۔الوعدُ: حاضر ہونا،
جلدی ہونا، پورا ہونا۔نَجِزَ ــــ نَجَزًا الشیءُ: ختم
ہونا، فنا ہونا ــــ الکلامُ: کلام منقطع ہونا۔نَجَّزَ
الحاجۃَ: ضرورت پوری کرنا ــــ الشیءُ: ختم ہونے
کے قریب ہونا (عوامی زبان میں) ــــ فی عملہ:
کام پورا کرنے کے قریب ہونا (عوامی زبان میں)۔
ناجَزَہُ: کے مقابلہ پر نکلنا، سے لڑائی کرنا، اس سے
ضرب المثل ہے۔المُحاجَزۃُ قبلَ المُناجزۃ:
(جنگ سے پہلے مصالحت ہونی چاہئے) اس شخص کے
بارے میں بیان کی جاتی ہے جو لڑائی کے بعد مصالحت
کا طالب ہو۔اَنجَزَ الحاجۃَ: ضرورت پوری کرنا ــــ
الوعدَ: وعدہ پورا کرنا، وفا کرنا، ضرب المثل اَنجَزَ
حُرٌّ ما وَعَدَ: یہ ضرب المثل وعدہ، وفا کرنے کے
بارے میں بیان کی جاتی ہے کبھی وعدہ وفائی چاہنے پر
بھی بیان کی جاتی ہے ــــ علی القتیل: مقتول کا کام
تمام کرنا۔تَنَجَّزَ الحاجۃَ او الوعدَ: حاجت روائی یا
وعدہ وفائی چاہنا ــــ الشرابَ: شراب پینے میں
اصرار کرنا۔تَناجَزَ القومُ: آپس میں لڑنا جھگڑنا۔
مقاتلہ کرنا۔استَنجَزَ الحاجۃَ او الوعدَ: حاجت
روائی اور وعدہ وفائی چاہنا۔الناجز: حاضر، وعدۃ

ناجز: پورا کیا ہوا وعدہ۔ بعتهٔ ناجزًا بناجزٍ: میں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ بیچا۔ نقد روپے پر فروخ کیا۔ لا یُباعُ غائب بناجز: غیر موجود چیز ادھار فروخت نہیں کی جاتی۔ النجز و النجاز: حصول، وفاعہد، کہا جاتا ہے۔ انت علی نجزِ حاجتِك: تو اپنا وعدہ پورا کرنے کے قریب ہے۔ النجیز: حاضر، نقد، وعدٌ نجیز: پورا کیا ہوا وعدہ۔

○ نَجَز ـ نَجْزًا ہ: کو بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، جامہ عمل پہنانا، کو انجام دینا، پورا کرنا، مکمل کرنا۔ نَجِزَ ـ نَجَزًا: بجالایا جانا، کی تعمیل ہونا، عمل میں آنا، جامہ عمل پہننا، انجام پانا، پورا ہونا، مکمل ہونا، حاصل ہونا۔ نَجَّزَ ہ: کو بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، جامہ عمل پہنانا، کو انجام دینا، پورا کرنا، بروئے کار لانا۔ (خواہش وغیرہ) پورا کرنا۔ ناجَزَهُ: سے لڑنا، جنگ کرنا، کے خلاف جدو جہد کرنا۔ أنجَزَ ہ: کو بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا۔ کو جامہ عمل پہنانا، کو انجام دینا، پورا کرنا، مکمل کرنا، بروئے کار لانا، کو درجہ کمال کو پہنچانا، (کام) کرنا، (کارروائی، آپریشن) کرنا (وعدہ) پورا کرنا (فرض) بجالانا، ادا کرنا، سے عہدہ برآ ہونا — علی: کو ہلاک کرنا۔ اِسْتَنجَزَ ہ: وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کرنا۔ وفائے عہد چاہنا۔ نجز و نِجَاز، تنجیز و إنجاز: تعمیل، کارروائی، بجا آوری، انصرام۔ عمل درآمد، نفاذ پر عمل، جامہ عمل پہنانا، عمل میں لانا، حصول، تکمیل، بروئے کار لانا، تکمیل، اتمام، سرانجامی، انجام دینا، پورا کرنا، حاصل کرنا۔ مُناجَزة و تناجُز: لڑائی، قتال، جدو جہد، مناقشہ، مجادلہ، مسابقہ، جدل و جدال، نزاع، جھگڑا۔ ناجِز: مکمل کیا ہوا، پورا، تمام، کل، سب سارا، کامل، مکمل، کامل، بے کم وکاست، پورا پورا، اعلیٰ درجے کا، پکا۔

نجس: نَجِسَ ـ نَجَسًا و نَجُسَ ـ نَجَاسَةً: گندا ہونا، ناپاک ہونا، صاف نہ ہونا۔ صفت نَجِس و نَجُس جمع أنجاس نَجَّسَ هُ: کو ناپاک کرنا، گندا کرنا، نجس کرنا — الصبیَّ ولهٗ: نظر بد سے بچاؤ کے لئے بچہ پر تعویذ وغیرہ لٹکانا۔ انجَسَ هُ: کو نجس کرنا، ناپاک کرنا، گندا کرنا۔ تَنَجَّسَ: نجس ہونا — الثوبُ: کپڑے کا گندا ہونا۔ الرجُلُ: ایسا کام کرنا جس سے نجاست سے نکل سکے۔ داءٌ ناجس و نجس و نجیس: لاعلاج بیماری۔ النُّجُس: تعویذ کرنے والے۔ الأنجاس: نظر بد اور جن سے بچاؤ کے لئے تعویذ اور پردہ وغیرہ۔

○ نَجُسَ ـ نَجَاسَةً و نَجِسَ ـ نَجَسًا: ناپاک ہونا، گندا ہونا، دھبا پڑا ہونا، داغدار ہونا، بدرنگ ہونا، فاسد ہونا، خراب ہونا۔ نَجَّسَ و انجَس ہ: کو گندا کرنا، پر دھبا ڈالنا، پر دھبا لگانا، داغ لگانا، آلودہ کرنا، ناپاک کرنا، نجس کرنا، کو غلیظ بنانا یا کرنا میلا کرنا، کو بدرنگ کر دینا، فاسد کرنا، خراب کرنا۔ تنجَّسَ: ناپاک ہونا، گندا ہونا یا ہو جانا، پر دھبا پڑنا، کو دھبا لگنا، پر داغ لگ جانا، آلودہ ہو جانا، نجس ہونا، میلا ہونا، غلیظ ہونا یا ہو جانا، بدرنگ ہو جانا، پر دھبے پڑ جانا، فاسد ہونا، خراب ہو جانا، پر دھبے پڑ جانا، فاسد ہونا، خراب ہونا یا ہو جانا، اپنے آپ کو آلودہ کرنا، ناپاک کرنا، نجس کرنا، گندہ کرنا، غلیظ کرنا۔ نَجَس و نجاسة: ناپاکی، میل، گندگی، نجاست، غلاظت، میلا، الائش۔ نَجِس جمع أنجاس: ناپاک، گندہ، میلا، غلیظ، آلودہ۔ نَجِس و نَجِیس: ناقابل علاج، مہلک (بیماری)

نجش: ۱۔ نَجَشَ ـ نَجْشًا الشیءَ: کی کھود کرید کرنا، کو نکالنا، کو بکھرنے کے بعد اکٹھا کرنا — الصیدَ: شکار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے بھڑکانا — النارَ: آگ جلانا، روشن کرنا — الحدیثَ: بات پھیلانا — فی البیع: چیز کی تعریف کرکے بائع کی موافقت کرنا۔ بغیر ارادہ خریداری چیز کا بھاؤ بڑھانا یا خریدار کو ایک چیز سے ہٹا کر دوسری چیز کی طرف رغبت دلانا۔ اسم النَّجَش — نَجْشًا و نَجَاشَةً: جلدی چلنا۔ تَناجَشَ القومُ فی البیع وغیرہ: دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا۔ اِستَنجَشَ الشیءَ: کو نکالنا۔ الصیدَ: شکار کو بھڑکانا۔ الناجِش: شکاری — والنَّجَاشِی: شکار کو شکاری کی طرف لانے والا۔ النَّجَّاش: شکاری۔ رجُل نَجُوش: شکار کو بھڑکانے والا۔ النَّجِیش: شکاری۔ المِنجاش: شکار کو شکاری کی طرف لانے والا، عیب گیر۔ المُنجَش: چغل خور۔ رجُل مِنجَش: شکار کو بھڑکانے والا۔ قول مَنجُوش: جھوٹی من گھڑت بات۔

۲۔ النِّجاش: تسمہ جس کو دو چمڑوں کے درمیان رکھ کر سی دیتے ہیں۔ النَّجَاشِی و النِّجاشی و النَّجاشی والنِّجاشی: ملک حبشہ کے بادشاہ کا لقب۔ حبشی زبان میں نجوشی کا معرب، جس کا معنی بادشاہ ہے۔

نجع: ۱۔ نَجَعَ ـ نُجُوعًا الطعام فی الانسان: میں خوراک کا نفع مند ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ ھذا طعام یُنجَعُ عنه وبه: یہ صحت بخش اور فائدہ مند کھانا ہے۔ — فیه الدواءُ او الطعام او الکلام: میں دواء، کھانا یا کلام کا داخل ہو کر اثر انداز ہونا۔ — البلدَ: شہر میں آنا۔ القومُ الکلاءَ: لوگوں کا چراگاہ تلاش کرنے نکلنا۔ الابلَ النجُوعَ بالنَّجُوع: اونٹوں کو آٹا ملا پانی پلانا۔ نُجِعَ الصبیُّ لبنَ الشاۃِ او بلبن الشاۃ: بچہ کو بکری کے دودھ کی خوراک دیا جانا اور دودھ سے بچہ کا پرورش کیا جانا۔ نَجَّعَ الطعام فی الانسان: کھانے کا مفید اور صحت بخش ہونا — فیه الدواء او الطعام او الکلام: میں دواء، کھانے یا کلام کا داخل ہو کر اثر انداز ہونا۔ انجَعَ الطعامُ وغیرُهُ: کھانے وغیرہ کا نفع مند ہونا، مفید ہونا۔ الرجُلُ: فلاح پانا۔ الراعی الفصیلَ: چرواہے کا اونٹ کے بچہ کو دودھ پلانا۔ تَنَجَّعَ وانتَجَعَ فلانًا: بخشش کی طلب میں کسی کے پاس آنا — واستَنجَعَ القومُ الکلاءَ: قوم کا چراگاہ کی تلاش میں جانا۔ اُستُنجِعَ به وعنه: سے خوش ہونا اور موٹا ہونا۔ الناجِع جمع نَاجِعَة و نواجِع: چراگاہ کا متلاشی۔ ماءٌ ناجِع: خوشگوار پانی۔ النُّجعَة جمع نُجَع: چراگاہ کی تلاش، یہ نجوع کا اسم ہے۔ کہا جاتا ہے۔ خرجوا للنجعة: وہ چراگاہ کی تلاش میں نکلے۔ فلانٌ نُجعَتی: فلاں میری امید ہے۔ النَّجُوع: آٹا ملا پانی جو اونٹوں کو پلایا جاتا ہے۔ نَجُوعُ الصبی: دودھ۔ ماءٌ نجوع: خوشگوار پانی۔ النَّجِیع: مفید۔ من الطعام او الشراب: جسم کے لئے مفید خوراک یا مشروب (یا شراب)۔ ماءٌ نجیع: خوش گوار پانی۔ المَنجَع و المُنتَجَع والمُستَنجَع: چراگاہ۔

۲۔ تَنَجَّعَ بالدم: خون سے لتھڑنا۔ النَّجِیع من الدم: سیاہی مائل خون۔

۳۔ النَّجْع جمع نُجُوع: بالوں کا بنا ہوا خیمہ۔ النُّجاع: شجاع کے تابع۔ کہا جاتا ہے۔ شجاع نجاع: بہت دلیر، بہادر۔

○ نَجَعَ — نَجْعًا و نُجُوعًا: مفید ہونا، سود مند ہونا، منفعت بخش ہونا، کارآمد ہونا، فائدہ بخش ہونا، صحت بخش اثر کا حامل ہونا۔ نَجَّعَ و انجَعَ: مندرجہ بالا معانی۔

اِنتَجَعَ ہ: کے پاس پناہ لینا، سے رجوع کرنا — ہ: آرام وغیرہ کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا، مانگنا، چاہنا۔ اِستَنجَعَ ہ: (چراگاہ، آرام تفریح) ڈھونڈنا چاہنا تلاش کرنا۔ نَجْع جمع نُجُوع: کھیڑا، چھوٹا گاؤں۔ ناجِع: مفید کارآمد، سود مند، صحت بخش، فائدہ بخش، خوشگوار، فرحت افزا۔ نُجعَة: خوراک کی تلاش۔ نَجِیع: مفید، کارآمد، سود مند، صحت بخش، خوش گوار، فرحت افزا، فائدہ مند، خون۔ مُنتَجَع: جائے پناہ، کنج عزلت، گوشہ نشینی، تفریحی مرکز، صحت گاہ، آرام کا مرکز، روبہ

صحت لوگوں کا گھر، دارالصحت، دارالشفاء۔

نجف : ا۔ نَجَفَ ۔ نُجْفًا النجیفَ: چوڑے پھل والا تیر تراشنا۔ صفت نَجِیف و مَنْجُوف نَجَّفَ ت الریحُ الکَثِیبَ او الرمَلَ: ہوا کا ریت کا ٹیلہ یا ریت اڑانا۔ النَجَف جمع نِجَاف و النَجَفَة: ٹیلہ۔ وادی کا وہ حصہ جہاں پانی نہ چڑھے۔ النِجَاف: دروازہ کا چھجہ، سردل۔ نِجَافُ الغار: غار پر آگے کو ابھری ہوئی چٹان۔ النَجِیف جمع نُجُف: چوڑے پھل کا تیر۔ المَنْجُوف (مفع): چوڑے پھل کا تیر۔ برتن قبر وغیرہ جن کے اندر کے پہلو وسیع ہوں۔

۲۔ نَجَفَ ۔ نُجْفًا الشجرةَ: درخت کو جڑ سے کاٹنا۔ ـــ الشاةَ: بکری کا سارا دودھ دوھ لینا۔ نَجَّفَ لفلان نجفةً من اللبن: کے لئے تھوڑا سا دودھ الگ کرنا۔ کو تھوڑا سا دودھ دینا۔ انْتَجَفَ و اسْتَنْجَفَ الشئَ: کو نکالنا۔ ـــ الشاةَ: بکری کا سارا دودھ دوھ لینا۔ ـــ ت الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو پانی سے خالی کر دینا، بادل برسانا۔ النُجْفَة: تھوڑی چیز۔ المِنْجَف: ٹوکرا۔

۳۔ المَنْجُوف: بزدل۔

○ نَجَفٌ جمع نِجَاف: (ریت کا) ٹیلہ، بند، پشتہ، سیلاب روک یا سیلابی پشتہ۔ النَجَف: وسطی عراق کے ایک شہر کا نام۔ نَجَفَة جمع نجفات: شیشے کا جھاڑ۔

نجل: ا۔ نَجَلَ ۔ نُجْلًا هُ ابوه و نَجَلَ به: کا باپ بننا، والد بننا۔ ـــ فلانًا: کو پاؤں کے پنجے سے مار کر لڑھکا دینا۔ ـــ الناسُ: لوگوں سے سختی سے پیش آنا۔ کہا جاتا ہے۔ مَن نَجَلَ الناسَ نَجَلُوه: جو لوگوں کو رسوا کرتا ہے وہ اسے رسوا کرتے ہیں اور جو انہیں گالی دیتا ہے وہ انہیں گالی دیتے ہیں۔ ـــ نَجْلًا الشئَ و بالشئِ: کو پھینکنا۔ تناجَلَ القومُ: نسل پیدا کرنا۔ انْتَجَلَ فلانٌ النزَّ: سیم نکالنا، رس کر آنے والا پانی نکالنا۔ اسْتَنْجَلَ المكانُ: جگہ میں رسنے والے پانی کی کثرت ہو جانا۔ النَاجِل (فا) م ناجلة جمع ناجلات و نَواجِل: شریف النسل انسان یا حیوان۔ النَجْل (مص) جمع انْجَال: بیٹا، نسل (کہا جاتا ہے ھو کریم النجل وہ شریف النسل اور شریف الطبع ہے)۔ والد۔ ـــ جمع نِجَال و انْجَال: جاری یا رسنے والا پانی۔ دلدل۔ المِنْجَل: بہت اولاد والا۔ ـــ جمع مَناجِل: درانتی۔

۲۔ نَجَلَ ۔ نُجْلًا الشئَ: کو ظاہر کرنا۔ ـــ الارضَ: کھیتی کے لئے زمین پھاڑنا۔ ـــ الجلدَ عن المذبوح: ذبح کئے جانے والے جانور کے ٹخنے اور گھٹنے کے بیچ کے گوشت سے کھال اتارنا۔ مَنْجُول: اس طرح اتاری ہوئی کھال۔ ـــ نَجْلًا هُ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ نَجِلَ ۔ نَجَلًا الرجلُ: بڑی اور خوبصورت آنکھوں والا ہونا۔ صفت انْجَل جمع نُجْل و نِجَال بڑی اور خوبصورت آنکھ کو نَجْلَاء، جمع نُجْل کہتے ہیں۔ تناجَلَ القومُ: آپس میں جھگڑنا۔ انْتَجَلَ الامرُ: ظاہر ہونا، گزرنا۔ النَجَل جمع نِجَال و انْجَال: سڑک، راستہ۔ الأَنْجَل جمع نُجْل و نِجَال م نَجْلَاء جمع نُجْل: کشادہ، لمبا، چوڑا۔ کہا جاتا ہے۔ طعنه طعنة نجلاء: اس نے اس چھرے کا بڑا گھاؤ لگایا۔ سنانٌ مِنْجَلٌ: چوڑا زخم لگانے والا نیزہ۔

۳۔ نَجَلَ ۔ نُجُلًا تِ الارضُ: زمین کا سرسبز ہونا۔ انْجَلَ الدابَّةَ: جانور کو سبز چارہ میں چھوڑنا۔ النَواجِل: نجیل نامی پودے چرنے والے اونٹ۔ النَجِیل جمع نُجُل (ن): ایک قسم کے پودے جس کی جڑیں بہت نکلتی ہیں جس کے بعد ان کا اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور مزروع چیزوں کے لئے خطرہ بن جاتی ہیں۔ ان پودوں کے ٹوٹے ہوئے پتے۔ النَجِیلِیَات (ن): گندم اور جو کی طرح اہم دانے دار پودوں پر مشتمل سیدھی ڈنڈیوں والے پودے۔ المِنْجَل: گھنی کھیتی۔

۴۔ نَجَلَ ۔ نَجْلًا الرجلُ: تیز چلنا۔ المِنْجَل: ماہر ساربان۔

۵۔ نَجَلَ ۔ نَجْلًا الصبیُّ اللوحَ: بچہ کا تختی مٹانا۔

۶۔ النَجْل جمع نِجَال و انْجَال: عمل۔ بڑی جماعت۔

○ نَجَلَ ۔ نُجْلًا: کا باپ بننا۔ نَجْل جمع انْجَال: نسل، اولاد، بچہ یا بچے، خلف، چشم و چراغ، نونہال، بیٹا، آل۔ نَجِیل جمع نُجُل: باغیچہ (باڑی) کی گھاس کی ایک قسم، رس دار پودے۔ انْجَل م نَجْلَاء: بڑی آنکھوں والا۔ بڑی چوڑی آنکھ۔ شگاف دار (زخم) طعنة نجلاء: شگاف دار زخم پیدا کرنے والی چوٹ، شدید ضرب یا چوٹ۔ مِنْجَل جمع مَناجِل: درانتی۔ مَنْجَلة: پروانہ راہداری۔

نجم: ا۔ نَجَمَ ۔ نُجُومًا الشئُ: ظاہر ہونا، نکلنا، کہا جاتا ہے۔ نَجَمَتِ الكواكبُ: ستارے نکل آئے۔ نَجَمَ النبتُ والسنُّ والقرنُ: پودے، دانت اور سینگ نکل آئے۔ نَجَمَ فی بنی فلان شاعرٌ او فارسٌ: فلاں قبیلہ میں ایک شاعر یا شہسوار نمایاں ہوا۔ کذا عن کذا: فلاں شئی سے ایک نتیجہ ظاہر ہوا۔ ـــ السهمُ او الرمحُ: تیر یا نیزہ کا پار ہو جانا۔ ـــ فلانٌ الدینَ: قرض مقررہ اوقات میں ادا کرنا یا قسطوں میں ادا کرنا۔ نَجَّمَ: احوال عالم معلوم کرنے کے لئے ستاروں کو دیکھنا۔ ـــ الدینَ: قرض قسطوں میں ادا کرنا۔ ـــ علیه الدیة: پر دیت کی قسط مقرر کرنا۔ انْجَمَ الشئُ: ظاہر ہونا، نکلنا۔ ـــ ت السماءُ: آسمان پر ستاروں کا ظاہر ہونا۔ تَنَجَّمَ: احوال عالم معلوم کرنے کے لئے ستاروں کو دیکھنا۔ النَجْم: تنے کے بغیر نباتات، بیل۔ اصل کہا جاتا ہے ھذا الحدیث لانجمَ له: اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جمع نُجُوم و انْجُم و انْجَام و نُجُم (فلک): ستارہ۔ ثریا۔ مقررہ وقت پر ادا کیا جانے والا قرض۔ (کہا جاتا ہے: جعلت مالی علیه نُجُومًا مُنَجَّمَةً یُؤَدِّی کل نجم منها فی وقت کذا: میں نے اپنا مال اس پر قرض مقرر کیا جس کی ہر قسط فلاں وقت میں ادا کی جائے گی۔) وقت جس میں قرض کی ادائیگی کی جائے۔ نَجْمُ البحر (ح): ایک سمندری جانور جس کے جسم میں پانچ یا زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ بہت تیز چلتا ہے اور بعض سمندری جانور مار ڈالتا ہے۔ جیسے سمندری کیڑے اور کستورہ مچھلیاں۔ نجوم السینما: فلمی ستارے۔ النَجْمَة: ستارہ۔ کلمه (ن): پودوں کی ایک قسم۔ ذو النَجْمَة: گدھا۔ النجمتان المزدوجتان (فلک): دو ستارے جو اپنے مشترکہ مرکز ثقل کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ النَجَمَة (ن): ایک قسم کا پودا (ن) زمین پر پھیلنے والی بیل۔ کہا جاتا ہے کہ الثِّیِّل و النجمة والعِكْرِش: ایک ہی چیز ہے۔ النَجَّام و المُتَنَجِّم: نجومی۔ النَجِیم من النبات: تازہ نکلا ہوا پودا۔ المَنْجَم: کان (نکلنے کی جگہ)، معدن، واضح راستہ۔ المِنْجَم: ترازو میں لوہے کی ڈنڈی۔ المُنَجِّم: نجومی۔ اس علم کا نام علم النجم ہے۔

۲۔ انْجَمَ الشتاءُ او البردُ: جاڑے یا سردی کا ختم ہونا۔ ـــ الرجلُ عن الامرِ: کام کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ ـــ ت الحروبُ: جنگ کا ختم ہونا۔ انْتَجَمَ البردُ او الشتاءُ: جاڑے یا سردی کا ختم ہو جانا۔

○ نَجَمَ ۔ نُجُومًا: ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ (ستارے کا) نکلنا۔ شروع ہونا۔ ـــ من/عن: سے نتیجہ نکلنا، سے نکلنا، سے مشتق ہونا، سے حاصل کرنا۔ نَجَمَ قرنُه: دکھائی دینے لگنا۔ نَجَّمَ: ستاروں کا مشاہدہ کرنا، ستاروں سے مستقبل کی پیش گوئی کرنا، جوتشی یا نجومی ہونا یا قسطوں میں ادا کرنا۔ تَنَجَّم: ستاروں کا مشاہدہ کرنا، ستاروں سے مستقبل کی پیش گوئی کرنا۔ نجم جمع نجوم: قسط، جزوی ادائیگی۔ نجوما: قسطوں میں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ نجم جمع نجوم و انجم: ستارہ، جرم فلکی

(جمع اجرام فلکی۔ مبارک ستارہ، (ستاروں کا) جھرمٹ، پچھتر۔ جڑی بوٹیاں، گھاس پات، رس دار پودے، گھاس نجم ذو ذنب: دم دار تارا۔النجوم السینما: فلمی ستارے۔منجمۃ جمع منجمات: ستارہ، ستارہ کا نشان یا علامت منجمۃ سینمائیۃ: فلمی ستارہ (عورت) مرض النجمۃ: گھوڑوں کی بیماری۔ نجیمی ستارہ کی شکل کا۔ ستاروں جیسا۔ ستارے کی مانند، ستاروں کا، ستاروں کے متعلق، قسطوں میں، قسط وار۔نجیمۃ: چھوٹا ستارہ منجام و منجم جمع منجمون: جوتشی، نجومی۔منجم جمع مناجم: منبع، جڑ، سرچشمہ، ذریعہ، اصل، کان، گڑھا۔تنجیم: جوتش، نجوم، ستارہ شناسی۔

نجہ: نجہ ۔ نجھا الرجل: کو بری طرح ہٹانا، سے بری طرح پیش آنا۔۔۔ علی القوم: قوم پر ظاہر ہونا، نکل کر قوم کے سامنے آنا۔۔۔ البلد: شہر میں داخل ہونا اور اسے ناپسند کرنا۔انتجہ و تنجہ الرجل: کو بری طرح ہٹانا، سے بری طرح پیش آنا۔

نجو: انجا ینجو نجاۃ و نجاءً و نجوًا و نجایۃ من کذا: سے نجات پانا، خلاصی پانا۔۔۔ نجاءً: جلدی کر کے آگے بڑھ جانا۔۔۔ نجوًا فلانًا: کو رہائی دینا، خلاصی دینا۔۔۔ الدواء: دوا پینا۔الشجرۃ: درخت کاٹنا۔۔۔ الصبیُّ: بچہ کا پاخانہ کرنا۔۔۔ النجو من البطن: پیٹ سے پاخانہ نکلنا۔۔۔ نجوًا و نجا الجلد من الذبیحۃ: ذبح کئے ہوئے جانور کی کھال اتارنا۔نجی تنجیۃ الرجل من کذا: کو سے رہائی دلانا، کی خلاصی کرانا۔۔۔ الرجل: کو بلند زمین میں چھوڑنا۔انجی الرجل: کو رہا کرانا، کو رہائی دلانا، کہا جاتا ہے تشرب دواءً فما انجاہ: اس نے دوا پی تو دوا نے اسے ٹھیک نہیں کیا۔۔۔ فلانًا غصنًا: کے لئے ٹہنی کاٹنا۔۔۔ الجلد: کھال اتارنا۔۔۔ ت النخلۃ: کھجور کے درخت کا پکی کھجوروں والا ہونا۔الرجلُ: پسینہ نکلنا۔ پادنا۔نجی: بلند زمین ڈھونڈنا۔استنجی من کذا: سے خلاصی پانا۔ الشیءَ من فلان: سے چیز چھڑوانا۔۔۔ الرجلُ: تیز چلنا، شکست کھانا۔۔۔ الشجرۃ: درخت کو جڑ سے کاٹنا۔۔۔ الشمر: پھل چننا۔ القومُ: تر کھجوریں حاصل کرنا یا کھانا۔۔۔ الرجلُ: غسل کرنا، یا پاخانہ کے بعد صفائی کرنا۔الناجی م ناجیۃ جمع نواج و ناجیات فا لنجبہ: تیز رفتار اونٹنی کہا جاتا ہے قطع المکان بنواج سریعۃ الایغال: اس نے جگہ تیز رفتار اونٹوں کے ذریعے طے کی۔النجا: لاٹھی، لکڑی، ہودے کی لکڑیاں۔ کھال۔ والنجاء: خلاصی۔ رہائی۔ کہا جاتا ہے النجاءَ ک النجاءَ ک و النجاکَ النجاکَ: جلدی کر، جلدی کر۔النجاۃ (مص) ج نجًا: خلاص، رہائی، بلند زمین، ٹہنی۔النجو (مص) جمع نجاء: پیٹ سے نکلنے والی ہوا یا پاخانہ۔ بادل جو بارش برسا چکا ہو۔النجاوۃ: زمین کی وسعت۔النجوۃ جمع نجاء: اسم مرہ۔ بلند زمین۔ کہا جاتا ہے انہ من الامر بنجوۃ: وہ اس امر سے پاک و بری ہے۔النجوی جمع نجاوی: خراج، محصول۔النجی جمع نجیۃ: تیز رفتار۔(بعیر نجی: تیز رفتار اونٹ) حدی پڑھنے والے کی آواز، چلا کر ہانکنے والا۔المنجاۃ جمع مناج: نجات کا باعث۔ کہا جاتا ہے الصدق منجاۃ: سچائی نجات کا باعث ہے۔المنجی جمع مناج: نجات کی جگہ۔ بلند زمین۔

۲نجا ینجو نجوًا و نجوی و ناجی مناجاۃً و نجاءً الرجلَ: سے سرگوشی کرنا۔اسم النجوی تناجی تناجیًا القومُ: باہم سرگوشی کرنا۔انتجی القومُ: باہم سرگوشی کرنا۔۔۔ الرجلَ: کو سرگوشی کے لئے خاص کرنا، کو اپنا رازدار بنانا۔النجو جمع نجاء: دو شخصوں کے درمیان راز کی بات۔النجاۃ جمع نجا: حسد، حرص، سانپ کی چھتری۔النجوی جمع نجاوی: مناجات کا اسم۔ بھید، راز، ہم راز، یہ مصدر کے ذریعہ وصف ہے جس میں مفرد و جمع یکساں ہیں۔ کہا جاتا ہے ہم نجوی: وہ ہم راز ہیں۔النجی جمع انجیۃ: راز، بھید، جس سے رازداری کی بات کی جائے، بات کرنے والا کہا جاتا ہے باتت فی صدرہ نجیۃ قد اسھرتہُ: اس کے سینہ میں غم رات بھر رہا اور اسے سونے نہیں دیا۔

۳نجا ۔ نجوًا و نجاءً و نجاۃً من: سے اپنے آپ کو بچانا، بچنا، رہائی پانا، آزاد ہونا، نجات پانا حفاظت کی طرف جانا، دور ہونا، سے گریز کرنا، نکل جانا، بھاگ جانا، بچ نکلنا، چھٹکارا پانا۔نجا بنفسہ یا نجا بروحہ من: سے اپنے آپ کو بچایا۔نجا بحیاتہ: اپنی زندگی بچانا، جان بچانا۔۔۔ نجوًا و نجویً ہ: کو راز یا بھید دینا، کے سپرد کرنا۔نجّی و انجی ہ من: کو سے رہائی دلانا، بچانا، محفوظ کرنا، نجات دلانا۔ناجاہ ب: سے کی سرگوشی کرنا، کو کوئی راز کی بات سپرد کرنا۔۔۔ ہ: کو اعتماد میں لینا، کو رازدار بنانا۔ناجی نفسہ: خودکلامی کرنا، اپنے آپ سے باتیں کرنا، اپنے آپ سے کہنا۔تناجی: ایک دوسرے سے سرگوشی کرنا۔ سرگوشی میں گفتگو کرنا۔ بھیدوں کا تبادلہ کرنا، خیالات کا تبادلہ کرنا، رازدارانہ بات چیت کرنا، بے تکلفی سے بات چیت کرنا۔انتجی ہ: ایک دوسرے کے کان میں کی سرگوشی کرنا۔استنجی من: سے اپنے آپ کو بچانا، سے فرار ہونا، سے رہائی پانا، نجات پانا۔فی نجوۃ من: سے آزاد، سے دور، سے بہت دور۔نجوی جمع نجاوی: رازدارانہ بات چیت، خفیہ گفتگو۔نجی جمع انجیۃ: خفیہ، مخفی، پوشیدہ، ہم راز، رازدار، محبت، ہمدم، معتمد علیہ، دلی دوست، یار غار۔منجی س: سے بچاؤ، سلامتی، نجات، رہائی۔منجاۃ جمع مناج: محفوظ جگہ، جائے پناہ، حفاظت گاہ، حفاظت، چھٹکارا، رہائی، نجات۔کان بمنجاۃ من: سے محفوظ ہونا۔مناجاۃ: پوشیدہ گفتگو، رازدارانہ بات چیت۔مناجاۃ الأرواح: ارواحیت (Spiritism) یا روحانیت (Spiritualism)۔منج: بچانے والا، چھڑانے والا، نجات دینے والا، نجات دہندہ۔منجی منجی۔

نح: انح ۔ نحیحًا الرجلُ: سینہ سے آواز نکالنا۔۔۔ نحًّا الجملَ: اونٹ کو تیز چلنے پر اکسانا۔النحاحۃ: سخاوت، بخل۔النحیح (مص) بخیل، کہا جاتا ہے فلانٌ شحیحٌ نحیحٌ: فلاں بخیل ہے۔

۲نحنح فلانًا: کو بری طرح ہٹانا۔۔۔ وتنحنح الرجلُ: سینہ سے آواز نکالنا، کہا جاتا ہے ما انا بنحنح النفس عن کذا: میرا دل اس سے خوش نہیں۔النحانحۃ: بخیل، کمینے۔

نحب: انحب ۔ نحبًا الرجلُ: نذر ماننا یعنی آپ پر کوئی کام فرض کرنا۔۔۔ القومُ فی سیرھم: جلدی چلنا۔۔۔ نحبًا بکذا: پر شرط باندھنا۔نحّب الرجلُ: نذر ماننا۔القومُ: جلدی چلنا۔۔۔ علی الشیء: میں مشغول ہونا۔ناحب مناحبۃً ہ علی کذا: سے پر شرط باندھنا۔۔۔ ہ: سے فخر میں مقابلہ کرنا۔۔۔ ہُ إلی فلان: کو کسی طرف فیصلہ کیلئے لیجانا۔تناحب القومُ: لڑائی وغیرہ کیلئے وقت مقرر کرنا۔النحب: تیز یا آہستہ چال۔(کہا جاتا ہے سار فلانٌ علی نحب: فلاں تیز چلا) بڑا خطرہ، جوا، بختی، ہمت، موت، نفس، وقت، مدت، نذر (کہا جاتا ہے قضی فلان نحبہُ: وہ مرگیا)۔النحبۃ: قرعہ۔المنحب فا سیر منحب: تیز چال۔

۲نحب ۔ نحبًا ونحیبًا الرجلُ: اونچی آواز سے رونا۔۔۔ نحبًا و نحابًا البعیرُ: اونٹ کو کھانسی لگنا۔انتحب: بہت رونا۔ لمبے لمبے سانس لینا۔النحب (مص): شدید گریہ، کھانسی۔

۳النحب: لمبائی، نیند، موٹاپا، بڑے جسم کا اونٹ، دلیل،

حاجت۔

ن نَحَبَ ـَ نَحْبًا و نَحِيبًا و انتحب: رونا، سسکیاں بھرنا، سسکیاں لینا، چیخنا، کراہنا۔ نَحُب رونا، سسکیاں بھرنا، سسکیاں لینا، آہیں بھرنا، کراہنا، ماتم، ندبہ، وقت، مدت، میعاد، عرصہ، وقفہ، موت۔ قضی نَحْبَهُ: اس نے اپنی قسم پوری کی، اس نے اپنا قول، عہد و پیمان پورا کیا۔ وہ گزر گیا، مر گیا۔ نحیب اونچی آواز سے رونا، کراہ، ماتم۔

نحت: ا۔ نَحَتَ ـِ و نَحِتَ ـَ نَحْتًا العودَ: لکڑی چھیلنا، ہموار کرنا، ـــ الحجرَ: سنگ تراشنا، پتھر تراشنا۔ ـــ الخشبۃ لکڑی کے تختہ کو ہموار کرنا، رندہ کر کے سطح ہموار کرنا۔ ـــ السفرُ البعیر: سفر کا اونٹ کو لاغر کرنا۔ ـــ الجبل پہاڑ کھودنا (کہا جاتا ہے: نُحِتَ فلانٌ علی الکرم فلاں شخص فیاض پیدا کیا گیا ہے۔) ـــ الکلمۃ کو دو یا زائد کلموں سے مرکب کرنا جیسے صَهْصَلَقَ صہل وصلق سے، البَسْمَلَۃ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے الحوقلۃ لاحول ولاقوۃ الا باللّٰہ سے فذلکۃ فذلک کذا و کذا سے إنْتَحَتَ من الخشبۃ ما یجعلہ فی النار: اس نے لکڑی سے اتنا حصہ کاٹ لیا جسے وہ آگ میں ڈالے۔ ـــ ت الخشبۃُ: لکڑی کا تختہ یا ٹکڑا کٹنا۔ النَّحْت و النَّحَات: طبیعت۔ النُّحاتۃ لکڑی کا چھیلن، تراشہ، کاٹنے سے گرے ہوئے ریزے۔ النَّحَات سنگ تراش، بہت چیرنے تراشنے والا۔ النَّحِیت (مص) تراشا ہوا۔ لاغر اونٹ ـــ من الحوافر: رگڑا ہوا سم۔ النَّحِیتَۃ: طبیعت کہا جاتا ہے۔ ھو کریم النحیتۃ: وہ فیاض طبیعت ہے۔ المِنْحَت جمع مَنَاحِت والمنحات جمع مناحیت: کندہ کرنے کا اوزار۔ لکڑی تراشنے کا آلہ، بسولہ کلہاڑی، کہا جاتا ہے: ھو من مَنْحِت صدق: وہ سچائی کی اصل سے ہے۔ ھم کرام المنابت والمناحت وہ پیدائشی فیاض ہیں۔

۲۔ نَحَتَ ـِ و نَحِتَ ـَ نَحْتًا ہُ کو پچھاڑنا۔ ـ ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ـــ ہُ بلسانہ کی غیبت کرنا، کو ملامت کرنا، گالی دینا۔ ـــ عرضہُ پر طعن کرنا، کی بے آبروئی کرنا۔ ـــ أثلتہُ وفی أثلتہ پر نکتہ چینی کرنا۔ کے حسب و نسب کو برائی کے ساتھ یاد کرنا۔

۳۔ نَحَتَ ـ نَحِیتًا کراہنا، ہائے ہائے کرنا۔ النَّحِیت: گریہ و زاری، کراہ، آہ آہ۔ آہ و بکا، آہ و زاری۔ النَّحِیتَۃ: آہ و بکا، آہ و زاری۔

۴۔ نَحِیت ردی چیز، قوم میں اجنبی۔

ن نحیت ـ نحتًا ـ (پتھر یا لکڑی) کاٹنا، کو ہموار کرنا، سجانا، کاٹنا، کو نہانی سے چھیلنا، سے مجسمے بنانا، پر نقاشی کرنا، سے بت بنانا، کو بنانا، کے سکے ڈھالنا۔ نحت: سنگ تراشی، مجسمہ سازی، پتھر کی تعمیر، بڑھی کا کام۔ نَحَّات: پتھر کا کام کرنے والا، پتھر کاٹنے والے۔ سنگ تراش نُحَاتَۃ چھیلن، تراشہ، ریزہ، ٹکڑا، قاش، چھپٹی، کرچ، لکڑی کا ٹکڑا۔ چپٹی۔ مِنْحَت جمع مَنَاحِت: چھینی۔

نحر: ا۔ نَحَرَ ـَ نَحْرًا و تَنْحَارًا البھیمۃ: جانور کے گلے میں چوٹ لگانا۔ ذبح کرنا، کہا جاتا ہے: نَحَرَ الامورَ عِلمًا: اس نے معاملات یا امور کو اچھی طرح جان لیا۔ ـــ فلانًا: کے مقابل ہونا، کہا جاتا ہے۔ نحر بیتی بیتہُ میرا گھر اس کے گھر کے مقابل ہے۔ ـــ الصلاۃَ: نماز کو اس کے پہلے وقت ادا کرنا۔ ـــ المصلّی فی الصلوٰۃ: نماز میں سینہ نکال کر کھڑا ہونا۔ نَاحَرَ مُنَاحَرَۃً ہُ: سے جھگڑا کرنا، کو گلے میں زخم لگانا۔ تَنَاحَرَ القومُ علی کذا: پر جھگڑنا اور بعض کا بعض کے مقابل آنے کے قریب ہونا۔ ـــ القومُ علی الطریق وغیرہ: راستہ وغیرہ پر پے در پے آنا۔ ـــ القومُ عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا۔ ـــ ت الداران: دو گھروں کا ایک دوسرے کے سامنے ہونا۔ إنْتَحَرَ الرجُلُ: خودکشی کرنا۔ ـ السحابُ: بادل کا بہت پانی لیکر اٹھنا۔ ـــ القومُ علی الامر پر لڑنا جھگڑنا۔ ـ ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ النَّاحِر فا: ذبح کرنے والا۔ النَّاحِران (ع ا): دو شہ رگیں۔ النَّاحِرَۃ جمع نَوَاحِر و نَاحِرات: ناحر کا مونث۔ مہینہ کا پہلا دن یا مہینہ کا آخری دن یا آخری رات۔ النَّاحرتان: دو شاہ رگیں۔ النَّحر (مص) جمع نُحور: سینہ کا اوپر کا حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ قعد فی نحر فلان: وہ فلاں کے مقابل بیٹھا۔ نحر النہار: دن کا ابتدائی حصہ۔ کہا جاتا ہے: اتیتہ فی نحر الظھیرۃ: میں اس کے پاس اس وقت آیا جب سورج اپنی بلندی کی انتہاء پر تھا۔ یوم النحر ذی الحجہ کا دسواں دن۔ النِّحر ماہر، ہنر مند، دانا و بینا۔ النَّحُور: ذبح کرنے والا، قاتل، خنجر والا۔ النَّحِیر جمع نَحْرَی و نُحَرَاء و نَحَائِر: ذبح کیا ہوا (اونٹ)۔ النَّحِیرَۃ جمع نَحَائِر: نحیر کا مؤنث۔ مہینہ کا پہلا دن، مہینہ کی آخری رات۔ النِّحْرِیر جمع نَحَارِیر: ماہر، سمجھدار، عقل مند، بڑا عالم۔ المَنْحَر: گلے میں زخم لگانے کی جگہ، ذبح کرنے کی جگہ۔ المِنْحَار: فیاض، بہت ذبح کرنے والا، مہمان نواز کہا جاتا ہے: انہ لَمِنْحَارٌ بوائکہا: وہ مہمان نواز ہے۔ بَوَائِک: موٹے اونٹ۔ المَنْحُور جمع مَنَاحِیر: سینہ کا اوپر کا حصہ۔ المُنْتَحَر: کشادہ راستہ۔

۲۔ النَّحِیرَۃ جمع نَحَائِر: طبیعت۔

ن نَحَرَ ـَ نَحْرًا ہ: جانور کا گلا کاٹنا، جانور کو ذبح کرنا، جانور کو چھری پھیرنا۔ تَنَاحَرَ لڑنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، باہمی ہلاکت آمیز لڑائی میں برسرپیکار ہونا۔ إنْتَحَرَ خودکشی کرنا (جہاز کا) پیندے میں سوراخ کی وجہ سے ڈبویا جانا یا ڈوب جانا۔ إنْتَحَرَ شَنْقًا: اپنے آپ کو پھانسی دینا، سولی دینا، سولی کے ذریعہ خودکشی کرنا۔ نَحْر قتل کرنا، ذبح کرنا، گلا کاٹنا۔ یوم النحر قربانی کا دن (ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو) نَحْر جمع نُحُور: سینہ یا گلے کا بالائی حصہ، نِحْر و نِحْرِیر جمع نَحَارِیر: ماہر، ہنر مند، فاضل، ذی علم، قابل، لائق، منجھا ہوا، مشاق، تجربہ کار (فی میں) نَحِیر و مَنْحُور: قتل کیا ہوا، ذبح کیا ہوا، گلا کاٹا ہوا، مَنْحَر گلا، حلق، گردن، إنْتِحَار: خودکشی، جہاز کی پیندے میں سوراخ کی وجہ سے غرقابی۔ مُنْتَحِر خودکشی کرنے والا۔

نحز ا۔ نَحَزَ ـُ نَحْزًا ہُ: کو دفع کرنا، جانور کو چھیڑتے جانا، کو ہاون میں کوٹنا۔ ـــ ہُ برِجلہِ: کو ٹھوکر لگانا، لات مارنا۔ ـــ فی صدرہ: کو سینہ میں مکہ مارنا۔ نَحِزَ ـَ نَحْزًا الرجُلُ: کھانسنا۔ ـ نَحَزًا البعیرُ: اونٹ کا پھیپھڑے کی بیماری والا ہونا۔ صفت نَحِز و نَاحِز و نَحِیز و مَنْحُوز۔ نُحِزَ و نَحُزَ ـُ نَحْزًا و نَحَزَ البعیرُ: اونٹ کا پھیپھڑے کی بیماری والا ہونا صفت، نَحِز و نَاحِز و نَحِیز و مَنْحُوز۔ أنْحَزَ القومُ: پھیپھڑے کی بیماری میں مبتلا اونٹوں والے ہونا۔ النُّحاز: اونٹوں کی پھیپھڑے کی بیماری، جس کی وجہ سے ان کو سخت کھانسی لگ جاتی ہے۔ المِنْحاز: ہاون۔

۲۔ النُّحاز و النِّحاز: اصل، کہا جاتا ہے۔ ھو کریمُ النُّحاز: وہ اچھی نسل کا ہے۔ النَّحِیزَۃ جمع نَحَائِز: طبیعت (کہا جاتا ہے: ھو کریم النَّحِیزۃ: (وہ خوش طبع ہے) سخت ناہموار راستہ۔

ن نَحِیزَۃ: طبیعت، مزاج، افتاد طبع۔ طَیِّبُ النَّحِیزَۃ: خوش طبع، کَرِیمُ النَّحِیزَۃ: شریف النفس، عالی ظرف، عالی منش، فیاض طبع۔

نحس ا۔ نَحَسَ ـَ نَحْسًا ہُ: پر ظلم کرنا۔ نَحِسَ ـَ نَحَسًا و نَحُسَ ـُ نَحَاسَۃً و نُحُوسَۃً طالعُ الانسان: منحوس ہونا، نامبارک ہونا، بدقسمت ہونا صفت نَحْسٌ و نَحِسٌ و مَنْحُوسٌ کہا جاتا ہے: یومٌ نَحْسٌ و نَحِسٌ و نَاحِسٌ و نَحِیسٌ و ایامٌ

نَوَاحِس و نُحُسات و نَحِسات: منحوس دن، منحوس ایام۔ نَحَّسَ الشیئَ: تانبے جیسا ہونا۔ ــــ فلانٌ الشیئَ: پر تانبے کی تہہ چڑھانا، کی قلعی کرنا، کا ملمع کرنا، انْحَسَ ت النارُ: آگ کا زیادہ دھواں اٹھانا۔ تَنَاحَسَ و اِنْتَحَسَ فلانٌ: اوندھا گرنا۔ عام نَاحِس جمع نَوَاحِس: قحط کا سال۔ النَحْس (مصدر): مشقت۔ مضرت۔ ناقابل حل معاملہ۔ غبار۔ ٹھنڈی ہوا، پچھوائی ہوا۔ ــــ جمع نُحُوسٌ و انْحِسٌ: منحوس کہا جاتا ہے: یومٌ نَحْسٌ و ایام نُحُسٌ: منحوس دن اور ایام۔

النحسان: زحل و مریخ (ستارے) السعدان: مشتری و زہرہ (ستارے) النُحس: قمری مہینہ کی آخری تین راتیں۔ النحاس (بتثلیث النون) تانبا، چنگاریاں جو لوہے کو کوٹتے وقت اڑتی ہیں۔ دھواں، آگ۔

النحاسُ الاصفر او الشبہ: پیتل (Brass)

النَحّاس: ٹھٹھیرا۔ تانبے کا کام کرنے والا، تانبے کی چیزیں بیچنے والا۔ المَنَاحِس: منحوس چیزیں، نحوست پیدا کرنے والے امور۔

۲۔ نَحَّسَ الاخبارَ: خبروں کے تجسس میں رہنا، خبروں کی ٹوہ لگانا۔ تَنَحَّسَ الاخبار و عنھا: خبروں کی تجسس کرنا۔ خبروں کے پیچھے لگا رہنا۔ اِسْتَنْحَسَ الاخبارَ و عنھا: بمعنی تَنَحَّسَ الاخبارَ و عنھا۔ ــــ الاخبارَ: خبروں کی تجسس کرنا۔

۳۔ تَنَحَّسَ الرجلُ: بھوکا ہونا ــــ لشربِ الدواءِ: دوا پینے کے لئے بھوکا رہنا۔

۴۔ النحاس (بتثلیث النون): مزاج، طبیعت، کہا جاتا ہے: ھو کریم النحاس: وہ خوش مزاج ہے۔ وہ خوش طبع ہے۔

◯ نَحَسَ ــَ نَحْسًا ہُ: کو ناخوش کرنا، غمگین کرنا، کے پاس بدبختی لیجانا۔ نَحُسَ ــُ نُحُوسَةً و نَحَاسَةً و نَحِسَ ــَ نَحَسًا: بدقسمت ہونا، بدشگون ہونا، بدنصیب ہونا، منحوس ہونا، نَحَّسَ ہ پر تانبے کا ملمع کرنا، تانبے کی قلعی کرنا، پر تانبے کی تہہ چڑھانا۔ نَحْس جمع نُحُوس بدقسمتی، بدنصیبی، بدبختی، مصیبت، آفت، شامت۔ نَحِس و نَحْس: بدقسمت، بدنصیب، بدشگون، منحوس نامسعود، نامبارک، بدفال، آفت زدہ، مصیبت کا مارا، پر آفت، مصیبت خیز، پر حوادث، آفت خیز۔

نحص: نَحَصَ ــُ نُحُوصًا ت الناقةُ: اونٹنی کا بہت موٹا ہونا یا مٹاپے کی وجہ سے حاملہ نہ ہونا۔ صفت نَحُوص و نَحِیص جمع نُحُص و نَحَائِص۔ النُحْص پہاڑ کا دامن۔

نحض: نَحَضَ ــَ نَحْضًا اللحمَ: گوشت سے پٹھے اتارنا۔ ــــ فلانًا: سے اصرار کے ساتھ سوال کرنا۔ ــــ العظمَ: ہڈی سے گوشت اتارنا۔ ــــ السنانَ: بھالا تیز یا باریک کرنا۔ ــــ ہُ الدھرُ: زمانہ کا کسی کو نقصان پہنچانا۔ ــــ نُحُوضًا و نَحِضَ و انتحض دبلا ہونا صفت نَحِیض و مَنْحُوض۔ نَحُضَ ــُ نَحَاضَةً: پر گوشت ہونا صفت نَحِیض و مَنْحُوض۔ اِنْتَحَضَ الشیئَ: کو چھیلنا۔ النَحْض (مص) جمع نِحَاض و نُحُوض: گوشت یا ٹھوس گوشت۔ النَحْضَة: گوشت کا موٹا ٹکڑا۔

نحط: نَحَطَ ــِ نَحْطًا و نَحِیطًا الفرسُ: گھوڑے کا تھکان سے آواز نکالنا۔ ــــ نَحِیطًا الرجلُ: لمبے لمبے سانس لینا۔ ــــ نَحْطًا السائلَ: سائل کو سوال پر جھڑکنا۔ النَاحِط (فا): سخت کھانسی والا۔ النحط و النُحَاط و النَحِیط: سینے کے اندر رونے کی دبی ہوئی آواز۔ النَحْطَة: اسم مرہ، اونٹوں اور گھوڑوں کی سینے کی بیماری جس سے وہ کم جان بر ہوتے ہیں۔ النَحّاط: متکبر۔ مغرور۔ المُنْحَطَة و المَنحوطة: سینے کی بیماری میں مبتلا۔

نحف: نَحِفَ ــَ و نَحُفَ ــُ نَحَافَةً: دبلا ہونا، صفت نَحِف جمع نَحِفُون و نَحِیف جمع نُحَفَاء و نِحَاف و مَنْحُوف اَنْحَفَ ہُ: کو دبلا کرنا۔

◯ نَحَافَة: کمزوری، دبلا پن، لاغری، نَحِیف جمع نِحَاف و نُحَفَاء: پتلا، پتلا دبلا، پتلا اور لمبا، چھریرا، نازک بدن، جس پر چربی نہ ہو، نحیف، نزار، ناتواں۔ مَنْحَف: وزن کم کرنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں پرہیزی غذا استعمال کی جائے۔ مَنْحُوف: پتلا، دبلا، پتلا اور لمبا، چھریرا، لاغر، کمزور، ناتوان۔ نحیف۔

نحل ۱۔ نَحَلَ ــُ نُحُولاً جسمُہٗ: بیماری یا تکان سے دبلا ہونا۔ ــــ نَحَلاً ہُ المرضُ: کو بیماری کا دبلا کر دینا۔ نَحِلَ ــَ و نَحُلَ ــُ نُحُولاً جسمُہٗ: دبلے جسم والا ہونا۔ اَنْحَلَ ہُ الھمُّ او المرضُ: کو غم یا بیماری کا دبلا کر دینا۔ المَنْحَل: لاغر و دبلا، نئے چاند (کہا جاتا ہے واَھِلَّة نُحَّل: نئے باریک چاند) النُحْل و النُحْلَة: لاغری، النَاحِل (فا) جمع نُحُول (جیسے شاہد و شہود) پتلا، پتلا دبلا۔ سیفٌ نَاحِلٌ: پتلی تلوار۔ حَبْلٌ نَاحِلٌ: لاغر اونٹ۔ ھِلَالٌ نَاحِلٌ: پتلا ہلال) الناحِلَة جمع نَوَاحِل: ناحِل کا مونث۔ النواحِل: پتلی تلواریں۔ النَحِیل جمع نَحْلَی دبلا پتلا۔

۲۔ نَحَلَ ــَ نُحْلاً الرجلَ: کو کچھ دینا۔ ــــ المراةَ: عورت کا مہر دینا۔ اسم النِحلَة نَحَّلَ و انْحَلَ فلانًا مالاً: کو مالی دینا۔ ــــ ہُ مالاً: کو مال میں سے کچھ دینا۔ النُحْل عطا کی ہوئی چیز، عطیہ۔ واحد نَحْلَة (ح): شہد کی مکھیاں۔

النُحل و النُحلَی و النُحلان: عطیہ، ہبہ۔ النِحلَة و النُحلَة جمع نِحَل و نُحَل: عطیہ، ہبہ، عورت کو اس کا مہر دینا۔

۳۔ نَحَلَ ــَ نَحْلاً القولَ: غلط بات منسوب کرنا۔ نُحِلَ الشاعرُ قصیدةً: شاعر کی طرف کوئی قصیدہ منسوب کرنا جو کسی اور کا ہو تَنَحَّلَ و انْتَحَلَ مذھبَ کذا او قبیلةَ کذا: کسی مذہب یا قبیلے سے اپنے آپ کو منسوب کرنا۔ ــــ الشعرَ او القولَ: کسی دوسرے کے شعر یا قول کو اپنا کہنا یا اپنے سے منسوب کرنا۔ النِحلَة و النُحلَة جمع نِحَل و نُحَل: دعویٰ، مذہب، دین، کہا جاتا ہے مانُحلَتُکَ تمہارا دین کیا ہے؟ نَحَلَ ــَ نَحْلاً زیداً: زید کو گالی دینا۔

◯ نَحَلَ ــُ و نَحَلَ ــَ و نَحِلَ ــُ نُحُولا: لاغر ہونا، گھلنا، وزن کھو دینا، پتلا دبلا ہو جانا۔ نَحَلَ ــَ نُحلاً ہٗ کو عطیہ دینا، تحفہ دینا۔ ــــ ہ ہ سے غلطی سے یا ناجائز طور پر کوئی چیز منسوب کرنا۔ اَنْحَلَ ہ کو دبلا کرنا، نحیف کرنا۔ ــــ ہ: کو کمزور کرنا۔ تَنَحَّلَ اور خصوصاً اِنْتَحَلَ ہ لنفسہ: کو اپنے سے منسوب کرنا، اپنے لئے دعویٰ کرنا۔ ــــ ہ: ناجائز طور پر کو اپنے لئے لینا، اختیار کرنا، فرض کرنا یا ناجائز طور پر کسی حق کا دعویٰ کرنا۔ ــــ ہ (کوئی مذہب یا دین) اختیار کرنا۔ ــــ ہ (غیر ملکی الفاظ) مستعار لینا، اختیار کرنا، لے لینا۔ ــــ کو لینا۔ اِنْتَحَلَ الاسلامَ: اسلام کا مدعی ہونا انتحل اسمَہٗ: کسی کا نام اختیار کرنا۔ انتحل الاَعرابیةَ: بدو ہونے کا دعویٰ کرنا۔ انتحل الاعذارَ: عذر سوچنا، عذر کرنا، بہانے بنانا یا کرنا۔ انتحلَ شخصیةَ فلانٍ: فریب دینا کہ وہ فلاں شخص ہے، فلاں شخص معلوم ہونا، کسی کی (جعلی) شخصیت اختیار کرنا۔ نَحْل: اسم جنس شہد کی مکھیاں واحد نَحْلَة: شہد کی مکھی۔ نِحْلَة جمع نِحَل: تحفہ، عطیہ، عقیدہ، ایمان، دین، مذہبی فرقہ، مسلک، نَحّال: شہد کی مکھیاں پالنے والا، مکھی پال، نحل پرور۔ نِحَالَة: شہد کی مکھیاں پالنا، نحل پروری، نحل پروری کا فن، مَنْحَل جمع مَنَاحِل: شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔ نحل پروری کی جگہ۔ مُنْتَحِل: ادبی سرقہ کرنے والا، مضمون چرانے والا۔ اسم مُنْتَحَل: اختیار کردہ نام، عرف، عرفی نام، مشہور نام، مصنف کا فرضی نام۔

نحم ۱۔ نَحَمَ ــِ نَحْمًا و نَحِیمًا و نَحَمَانًا الرجلُ: کھنکارنا، گلا صاف کرنا۔ ــــ الاسدُ: شیر کا دھاڑنا۔

رَجُل نَحِم ہانپنے والا، دم چڑھا، پیٹ سے نکلنے کی آواز والا۔ السَحمہ کھانسی، کھانسنا۔ النُحام واحد نُحامَۃ (ح) ایک آبی پرندہ، لم ڈھینگ کی ایک قسم۔ النَحّام: بہت ہانپنے والا۔ کنجوس جب سوال کیا جائے تو بہت کھانسنے لگے۔ (ح) شیر۔ النَحِیم: پیٹ سے نکلنے والی آواز۔

۲۔ اِنتَحَمَ علی کذا و لکذا: کا پختہ ارادہ کرنا

نَحَمَ ـِ نَحمًا و نَحِیمًا و نَحَمانًا: گلا صاف کرنا، خرخر کرنا، سوں سوں کرنا، ہانپنا، سانس پھولنا، دم چڑھنا، سانس کھینچنا۔ نُحام لال لم ڈھینگ۔

نحن: نَحنُ ہم (دو یا جمع کیلئے)

نحو: نَحا یَنحُو نَحوًا الشئَ: کا قصد و ارادہ کرنا۔ ـ نَحوَ فلانٍ: کی پیروی کرنا ــــ الرجُلَ: ایک رخ پر جھکنا۔ ــــ بصرَہُ الیہ: کی طرف نظر پھیر کر دیکھنا۔ ــــ فلانًا عنہ: کو سے پھیرنا، ہٹانا۔ الشئَ: کو جھکانا نَحّیَ تَنحِیَۃً الرجُلَ عن موضعہ: کو اس کی جگہ سے پھیرنا اور ہٹانا۔ نَاحَی مُنَاحَاۃً: ایک دوسرے کی طرف ہونا۔ اَنحَی اِنحاءً: اعتماد کرنا اور ایک جانب جھکنا۔ ــــ علی فلان ضربًا: کی طرف متوجہ ہونا۔ بصرہ عنہ: سے نظر کو ہٹانا۔ ــــ علیہ: پر اعتماد کرنا۔ تَنَحّی الرجُلُ: اپنے کلام میں اعراب استعمال کرنا۔ ـ للشئِ: پر اعتماد کرنا۔ ـ عن موضعہ: اپنی جگہ سے الگ ہونا۔ اِنتَحَی اِنتحاءً الشئَ او الرجُلَ: چیز یا مرد کا قصد و ارادہ کرنا۔ ــــ لہ: پر اعتماد کرنا اور اس کی طرف جھکنا۔ ـ البعیرُ علی شِقِہِ الایسر: اونٹ کا اپنی بائیں طرف جھکنا یا بائیں ٹیک لگانا۔ النَاحِی (فا) جمع نَاحِیات و نَواحٍ و اَنحِیَۃ: جانب۔ جہت۔ النَحو ج اَنحاء: جانب، جہت، راستہ، مثل، مقدار، قصد۔ ظرف و اسم ہوتا ہے علم النحو (جمع انحاء و نُحُوّ اسم تصغیر نُحَیّۃ) کلام پر اعراب کا علم۔ علم نحو وہ علم جس میں کلام عرب کے اعراب اور ترکیب و افراد سے بحث ہوتی ہے۔ النَحوِی جمع نَحوِیُّون: علم نحو کا عالم۔ نحوی۔

نحا ـُ نَحوًا ہ: کے پاس جانا، کی راہ لینا، کی طرف جانا، چلنا، حرکت کرنا یا رخ کرنا۔ ـ ہ کی طرف جانے والی سڑک پر ہولینا کی طرف، جانب سمت یا کے رخ جانا۔ نحا نَحوَہٗ کی پیروی کرنا، کے نقش قدم پر چلنا، سے رہنمائی لینا کا سا ہونا، کا جیسا ہونا، اسی طبیعت کا ہونا، اسی قسم کا ہونا، اسی جیسی لائن پر ہونا، کے مانند ہونا۔ نحا نحوَ الباب: دروازہ کی طرف چلنا۔ نحا بہ نحوَ الباب: کو دروازہ تک لیجانا۔ نَحّی ہ کو ایک طرف رکھنا، کی طرف دھکیلنا، جھاڑنا۔ ــ ہ من: کو سے ہٹانا، کو سے لیجانا۔ اَنحی بصرَہُ من: سے اپنی آنکھیں پھیر لینا، موڑنا، ہٹانا، دور کرنا۔ ــــ علی: کا مخالف ہو جانا۔ ــ علی ب: پر سے حملہ کرنا، کو سے زیر کرنا، پر سے قابو پانا، کو سے قابو میں لانا، پر ملامت وغیرہ کے ڈھیر لگانا، پر کی بھرمار کرنا۔ ــــ علی: پر توجہ کرنا، کی طرف توجہ کرنا، تن دہی سے کوئی کام کرنا، کی کاوش کرنا۔ تَنَحّی من / عن: سے پرے ہٹ جانا، سے دور ہو جانا، سے پیچھے ہٹ جانا۔ ــــ عن: کے بغیر گزارہ کرنا، سے دست بردار ہونا، کو چھوڑ دینا، سے قطع تعلق کرنا، کو اپنا ماننے سے انکار کر دینا، سے دستکش ہونا، کو ترک کرنا۔ ــــ ہ: کسی جگہ کی طرف پسپا ہونا، کی طرف ہٹنا۔ ــــ ل: پر جھکنا، پر ٹیک لگانا، کا سہارا لینا۔ اِنتَحَی ہ کی طرف مڑنا۔ ـ ل: پر جھکنا، کا سہارا لینا۔ اِنتَحَی نَاحِیَۃً: ایک طرف ہو جانا۔ اِنتَحَی جانبًا: ایک طرف ہو جانا، پیچھے ہٹنا، پسپا ہونا، ہٹنا۔ نَحو جمع اَنحاء: طرف، رخ، سمت، جانب، پہلو، ٹکڑا، قطعہ، حصہ، راستہ، طریقہ، انداز، اسلوب، وضع، طور، رواج، نَحوَ: کے برابر، مطابق، کے مشابہ، مثل، مانند، سے ملتا جلتا، سا، ویسا ہی، کسی قدر، ویسا ہی (گرامر) گرامر۔ صرف و نحو، قواعد زبان، نحو، علم نحو، جملوں کی نحوی ترکیب، علی نحوِ ما: کے انداز میں، کی شکل میں، کے ڈھنگ پر، کے طریقہ پر، مثل، مانند۔ علی نحوِ ما: قدرے، کسی قدر، بلکہ، قریب قریب، علی هذا النحو: اس طرح، اس انداز میں، اس پہلو سے۔ وعلی هذا النحو: وغیرہ وغیرہ وقس علی هذا، الخ۔ فی نحو الساعۃ السابعۃ: سات بجے کے قریب۔ من نَحوِی: جہاں تک میرا تعلق ہے۔ نَحوًا من: تقریبًا، کے قریب، کے لگ بھگ۔ فی انحاءِ الارض: تمام یا ساری زمین پر، پوری زمین پر، تمام روئے زمین پر۔ فی کل انحاءِ العالَم (یا المعمورۃ): دنیا بھر میں، تمام دنیا میں، ساری دنیا میں۔ النحو المُقارِن: تقابلی گرامر۔ نَحوَ: کی سمت میں، کے رخ، کی طرف، کو، کے مطابق، کے تناسب سے، کی مطابقت میں، جیسا، مانند، جیسے، کی طرح، مثلاً، مثال کے طور پر، تقریبًا، لگ بھگ، کے قریب۔ نَحوِیّ نحو کا، نحو کے متعلق، نحوی، صرفی، صرف و نحو سے متعلق، قواعد زبان سے متعلق، قواعد دان، نحوی، ماہر لسانیات۔ مَنحًی جمع مَنَاحٍ مقصد، منزل مقصود، غرض، طریقہ، انداز، طرز عمل، رویہ، سمت، طرف، رخ، (ادبی، جذباتی) صورت، میدان، دائرہ، حلقہ، مَنَاحِی الحیاۃ: زندگی کے شعبے۔ نَاحٍ جمع نُحَاۃ: قواعد دان، نحوی، ماہر لسانیات۔ نَاحِیَۃ جمع نَوَاحٍ: پہلو، سمت، طرف، زاویہ، نگاہ، زاویہ نظر، نقطہ نگاہ، نقطہ نظر۔ رخ، پہلو، خطہ، دائرہ، حصہ، حلقہ، میدان، ضلع (عراق میں) قضاء کا چھوٹا حصہ (سب ڈویژن) جو برطانوی ضلع (جسے کاؤنٹی کہتے ہیں) کے برابر ہے (کرہ وغیرہ) کا گوشہ، کونا یا کنارا۔ نَاحِیَۃَ کی سمت، کے رخ، کی طرف، کی جانب۔ من ناحیۃ: جہاں تک اس کا تعلق ہے، کے بارے میں، کے متعلق، کے باب میں۔ من ناحیۃٍ اُخریٰ دوسری طرف۔ من الناحیۃِ العسکریۃ: عسکری نقطہ یا زاویہ نظر (یا نگاہ) سے۔ من ناحیۃٍ قانونیۃٍ آئینی، از روئے قانون۔ من ناحیۃٍ واقعیۃٍ اصلی، حقیقی (De facto) سلیمُ النواحی صحیح سالم (جسم والا) مُتَعَدِّدُ النواحی: کثیر الاضلاع، متعدد پہلوؤں والا، گوناں گوں صلاحیتوں والا۔ من جمیع النواحی: ہر پہلو سے۔

نحی: ۱۔ نَحَی یَنحَی و یَنحِی نَحیًا الشئَ: کو زائل کرنا۔ ــ بصرَہُ الیہ: کی طرف نگاہ پھیرنا۔ ــ یَنحِی نَحیًا ہُ: کو ایک جانب کرنا۔ نَحّی تَنحِیَۃً و تَنَحّیًا ہُ: کو زائل کرنا، جھکانا تو (اس کا) زائل ہونا اور جھک جانا۔ اَنحَی لہ اسلاحَ: کو ہتھیار سے مارنا۔ ــ علیہ بالسیف: پر تلوار سے متوجہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: اَنحَی علیہ باللوائم: پر ملامت کے ساتھ متوجہ ہونا۔ اِنتَحَی فی الأمرِ: کی کوشش کرنا۔ ــــ فی الشئِ: کا سہارا لینا۔ النَحِیَّۃ: قصد، نشانہ، کہا جاتا ہے: فلانٌ نَحِیَّۃُ الشدائد: فلاں مصیبتوں کا نشانہ ہے۔ المُنحَاۃ جمع مَنَاحٍ بیحد ارندی۔ پانی لانے والے اونٹ کا راستہ۔ اهلُ المَنحَاۃ دور کے لوگ جو رشتہ دار نہ ہوں۔

۲۔ نَحَی یَنحَی و یَنحِی نَحیًا اللبنَ: دودھ بلونا۔ النَحی و النِحی و النُحی جمع انحاء و نِحَاء و نُحِیّ: گھی کی مشک، دودھ بلونے کا برتن، بلوئی۔

۳۔ النَحی و النِحی و النُحی جمع اَنحاء و نِحاء و نُحِیّ: چوڑے پھل کا تیر۔

(نحی کے جدید معانی اوپر درج کئے جا چکے ہیں)

نخ: ۱۔ نَخَّ ـُ نَخًّا: تیز چلنا۔ الإبلَ: اونٹوں کو تیز ہانکنا۔ ــ الإبلَ و بالإبلِ: اونٹوں کو اخ اخ یا نخ نخ کہہ کر بٹھانا، سر نیچا اور جھکانے پر عام لوگ نخ کہتے ہیں۔ النَخَّۃ: اسم مرۃ۔ کام کرنے والے بیل، پتلا دبلا مرد یا پتلی دبلی عورت۔ النُخَّۃ کام کرنے والے بیل۔

۲- النُخ گودا، مغز۔ النخ جمع اَنخاخ لمبا فرش۔ النخة: ہلکی بارش۔ غیر مصدقہ خبر النُخاخة گودا، مغز۔

۳- تَنَخنَخَ البعیرَ و تَنَخَّخَ اونٹ کو بٹھانا اور اونٹ کا بیٹھ جانا۔ ـــ فلانًا کو جھڑکنا، ہٹانا۔ ـــ الرجلُ تیز چلنا۔ ـــ بالابل اونٹوں کو اخ اخ کہہ کر جھڑکنا تاکہ وہ بیٹھ جائیں۔

○ نخ جمع انخاخ چٹائی، بوریا، نمدہ، قالین، غالیچہ۔

نخب ا۔ نَخَبَ ـُ نَخْبًا الشیءَ کو کھینچنا، کا خلاصہ نکالنا۔ ـــ الصقرُ الصیدَ باز کا شکار کے دل کو نکالنا۔ نَخِبَ ـَ نَخَبًا بزدل ہونا صفت نَخِبٌ و نَخْبٌ و نِخَبٌ و نَخَبٌ و اُنْخَبٌ۔ اَنْخَبَ الرجلُ بزدل بچہ کا باپ ہونا، بہادر بچہ کا باپ ہونا (ضد) اِنْتَخَبَ الشيءَ: کو کھینچنا۔ پسند کرنا۔

النَّخْب (مص) جام صحت (عام لوگ محبوب یا دوست کی صحت یابی پر کہتے ہیں شرب سرّہ او علی صحته اس نے اس کا جام صحت پیا) بزدلی، تھڑدلی، ڈرپوک۔ النَّخْبَة: بزدل، ڈرپوک۔ النُخَبَة جمع نُخَبات چیدہ لوگ، شراب کا بڑا گھونٹ۔ ـــ والنُّخْبَة جمع نُخَب پسندیدہ چیز۔ النُخبات بزدل لوگ۔ النِخاب دل کی جھلی۔ النَخِیب جمع نُخُب: بزدل، دل گردہ سے عاری۔ المِنخاب جمع مَناخِیب: کمزور، بے فیض۔ المَنخوب دبلا، لاغر۔ و الیَنخُوب: بزدل، دل گردہ سے عاری۔

۲- نَخَبَ ـُ نُخُبًا: النملةُ چیونٹی کا کاٹنا۔

۳- النُخْب و النُخبة بہترین۔ الیَنخُوب لمبا۔

○ نَخَبَ ـُ نَخْبًا و انتخب ہ کو چننا، چھانٹنا، کا انتخاب کرنا، کو منتخب کرنا۔ ـــ ہ کا انتخاب یا چناؤ کرنا، نخب و انتخب: ووٹ دینا، عام انتخابات ہونا، یا کرنا، نخب انتخاب، چناؤ، کسی کا جام صحت۔ شربَ نخبَهُ: کا جام صحت نوش کرنا۔ نُخْبَة جمع نُخَب: منتخب ٹکڑا یا چیز، منتخب عبارت، بہترین، بہترین حصہ، انتخاب، لب لباب عطر، ممتاز افراد، زعماء۔ اِنتِخاب جمع اِنتخابات الیکشن، چناؤ، انتخاب۔ اِنتخابی: الیکشن یا الیکشنوں کا، کے متعلق انتخابی، رائے دہندگان کا مَعرَكَة اِنتِخابِيَّة انتخابی مہم۔ ناخِب و مُنتَخِب جمع ناخِبون و مُنتَخِبون انتخاب کنندہ، رائے دہندہ، ووٹر۔ مَنخُوب دبلا پتلا، لاغر مُنتَخَب چنا ہوا، منتخب، انتخاب کیا ہوا، منتخب امیدوار جمع مُنتَخَبات: ٹیم (کھیلوں کی) مُنتَخَبات منتخب ٹکڑے، منتخب آٹمیں، منتخب عبارتیں۔

نخت: نَخَتَ ـُ نَخْتًا الطائرُ الشیءَ: پرندہ کا چونچ

مارنا۔ ـــ القولَ بات کو انتہا تک پہنچانا۔

نخج: نَخَجَ ـَ نَخْجًا السیلُ فی سند الوادی: سیلاب کا کناروں سے ٹکرانا۔ ـــ الدلوَ و بالدلو فی البئر ڈول کو پانی سے بھرنے کیلئے کنویں میں ہلانا۔ اِستَنخَجَ الرجلُ سختی کے بعد نرم ہونا۔

نخر ا۔ نَخَرَ ـِ نَخْرًا و نَخِیرًا الانسانُ او الدابةُ انسان یا جانور کا خراٹے لینا ـــ نَخْرًا الحالبُ الناقةَ دودھ دوہنے والے کا اونٹنی کی ناک کے نتھنوں میں انگلی ڈال کر سہلانا تاکہ دودھ تھنوں میں اتر آئے۔ نَخِرَ ـَ نَخَرًا العودُ او العظمُ و نَخُرَة: لکڑی یا ہڈی وغیرہ کا بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہونا صفت ناخِر و نَخِر۔ نَخَّرَہ: کو بوسیدہ کرنا، سے گفتگو کرنا۔ الناخِر (فا) جمع نُخْر بوسیدہ، ریزہ ریزہ کہا جاتا ہے۔ ما بالدار ناخِر گھر میں کوئی نہیں۔ (ح) حملہ آور سؤر، گدھا، گھوڑا۔ الناخِرَة: ناخر کا مونث، بوسیدہ ہڈیاں، گھوڑے یا گدھے۔ النُخْر جمع نُخَر: ناک کا اگلا حصہ ـــ من الریح ہوا کی تیز رفتاری النُخرَة جمع نُخَر ناک کا اگلا حصہ النَخّار بہت خراٹے لینے والا۔ المَنخَر و المِنخَر و المُنخُر و المُنخَر و المَنخُور جمع مَناخِر و مَناخِیر (ع ا) ناک۔

۲۔ النِخوار جمع نَخاوِرَة: متکبر۔ بزدل، کمزور، شریف۔

○ نَخَرَ ـُ نَخْرًا و نَخِیرًا فی: کو کاٹنا، کترنا، (کیڑے کا) کسی چیز کو کریدنا، کھودنا کھا جانا۔ ـــ ہ کو تباہ کرنا، کمزور کرنا، کی جڑیں کھوکھلی کرنا۔ نَخِرَ یَنخَرُ نَخَرًا: گلنا، سڑنا، سوراخوں سے پُر ہونا، گھن یا کیڑا لگا ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ریزہ ریزہ ہونا۔ نَخْر نتھنوں سے آواز نکالنا، خراٹے لینا۔ سڑنے کی حالت، بوسیدگی، تباہی، دانتوں کی بوسیدگی۔ عفونت، تعفن، سڑاند۔ نَخِر و ناخِر گھن لگا، کیڑا لگا، بوسیدہ، گلا سڑا۔ نَخِیر نتھنوں سے آواز نکالنا، خراٹے، خراٹے لینا، غراہٹ۔ مَنخَر و مُنخُر و مِنخَر جمع مَناخِر: نتھنا، ناک، مِنخار جمع مَناخِیر نتھنا، ناک۔

۳- نَخرَبَ الشجرةَ درخت میں سوراخ کرنا۔ النُخرُوب جمع نَخارِیب سوراخ، پتھر کی دراڑ۔ نَخارِیبُ النحلِ شہد کے چھتے کے خانے۔

○ نُخرُوب جمع نَخارِیب سوراخ، گڑھا، کھوہ، خانہ، شہد کی مکھیوں کا چھتا۔

نخز: نَخَزَ ـُ نَخزًا ہ بالحدیدة: کو لوہے سے زخمی کرنا۔ ـــ ہ بکلمة کو کسی بات سے دکھ پہنچانا۔

○ نَخَزَ ـُ نَخزًا ہ کیڑے کا کسی چیز میں سوراخ کرنا۔

نخس ا۔ نَخَسَ ـُ نَخْسًا الدابةَ جانور کے پہلو یا پٹھے (پشت میں) لکڑی وغیرہ چبھونا تاکہ وہ تیز چلے۔ ـــ البَكَرَةَ: چرخی میں پچڑ لگانا۔ ـــ بفلانٍ کو بھڑکانا، برانگیختہ کرنا۔ نَخِسَ البعیرُ اونٹ کا خارشی دم والا ہونا صفت مَنخُوس، تَناخَسَ تِ الغنمُ بکریوں کا سردی کی وجہ سے ایک دوسرے سے گرمی حاصل کرنا۔ ـــ تِ الغدرانُ تالابوں کا ایک دوسرے میں پانی پہنچانا۔ الناخِس (فا) اونٹ کی دم کی کھجلی۔ ـــ و النَخُوس (ح) جوان پہاڑی بکرا۔ النِخاس جمع نُخُس: چرخی کے سوراخ میں لگائی ہوئی پچڑ۔ نِخاسا البیت دروازے کے ستون۔ النِخاسَة بمعنی نِخاس ـــ و النَخّاسَة غلاموں کی بیع (فروخت) جانوروں کی بیع (فروخت)۔ النَخّاس بہت چبھونے والا۔ غلاموں یا جانوروں کا تاجر یا دلال۔ النَخِیس: چرخی میں لگی ہوئی پچڑ۔ المِنخَس جمع مَناخِس: مہمیز، انکس۔

۲- نَخِسَ لحمُہ کم گوشت والا ہونا۔

۳- النَخِیسَة بھیڑ بکری کا ملا جلا دودھ، مکھن۔

○ نَخَسَ ـُ نَخْسًا ہ (جانور) کو ایڑ لگانا، کوئی چیز چبھونا، آر چبھونا، جانور کو تیز چلانا، آگے بڑھانا، ہانکنا، نَخّاس: مویشیوں کا بیوپاری، غلاموں کی تجارت کرنے والا۔ طوائفوں اور پیشہ ور لڑکیوں کا فراہم کرنے والا۔ نِخاسَة مویشیوں کا بیوپار، غلاموں کی تجارت، طوائفوں اور پیشہ ور لڑکیوں کی تجارت۔ مِنخَس جمع مَناخِس مہمیز، آر، آنکس، نوکدار اوزار (جانوروں کو ہانکنے کے لئے)۔ مِنخاس جمع مناخیس: مہمیز، آنکس، نوکدار چیز (جانوروں کو ہانکنے کے لئے)۔

نخش ا۔ نَخَشَ ـُ نَخْشًا ہ کو اکسانا، بھڑکانا۔ ـــ الشيءَ: کو حرکت دینا، ہلانا۔ ـــ الدابةَ کو تیز ہانکنا۔ تَنَخَّشَ الی كذا: کی طرف حرکت کرنا۔ النَّخْش (مص) نال کا ایک حصہ۔

۲- نَخَشَ ـُ نَخْشًا العودَ لکڑی کو چھیلنا۔ ـــ ہ کو تکلیف پہنچانا۔ ـــ نُخِشَ نَخْشًا نُخِشَ: دبلا ہونا۔ نَخِشَ ـَ نَخَشًا الشيءُ چیز کا نچلے حصہ سے بوسیدہ ہونا۔

○ نَخشُوش جمع نَخاشِیش گھبرا۔

نخص: نَخَصَ ـَ نَخْصًا الرجلُ: دبلا ہونا، جھریوں والا ہونا۔ ـــ و اَنخَصَ ہُ الکبرُ او المرضُ: بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے دبلا ہونا جھریوں والا ہونا۔ نَخِصَ ـَ نَخَصًا و انتخصَ لحمُہ: کم گوشت ہونا۔ عجوزٌ ناخِص جھریوں والی لاغر

بُڑھیا۔

نخط ا۔ نَخَطَ ـُ نَخْطًا الیھم پر اچانک آنا۔ النَّخط والنُّخط لوگ، کہاجاتا ہے ما اَدْرِی اَیُّ النَّخط ھو میں نہیں جانتا وہ کس قسم کا آدمی ہے۔

۲۔ نَخَطَ ـــ نَخْطًا المخاط من اَنفِہٖ ناک کا رینٹ صاف کرنا، ناک جھاڑنا۔ ـــ نَخِیطًا بفلانٍ: کو گالی دینا، کی غیبت کرنا۔

اِنْتَخَطَ ہٗ: کے مشابہ ہونا۔ المخاط من انفہ: ناک جھاڑنا، ناک کا رینٹ صاف کرنا۔ النُّخط بچہ کی جھلی کا پانی۔ النَّخط نیزوں سے کھیلنے والے بہادر۔

۳۔ نَخَطَ ـُ نَخْطًا علیہ پر تکبر کرنا۔

۴۔ النُّخط حرام مغز۔

نخع ا۔ نَخَعَ ـــ نَخْعًا الذبیحۃَ ذبح کرتے وقت چھری کو مذبوحہ جانور کے حرام مغز تک اتار دینا۔ ـــ لـِ الرجُلَ سینہ یا ناک سے کوئی چیز دور کرنا۔ ـــ ہٗ الطاعۃَ او النصیحۃَ سے اطاعت اور نصیحت میں خلوص برتنا۔ ـــ الامرَ علمًا: معاملہ سے خوب باخبر ہونا۔ نَخِعَ ـــ نَخَعًا العودُ او النباتُ لکڑی یا پودے میں پانی رواں ہونا۔ تَنَخَّعَ الرجُلُ گلا صاف کرنا، کھنکھارنا، کھنکھار کر بلغم نکالنا، بلغم تھوکنا۔ ـــ السحابُ بادل کا سارا پانی برسنا۔ اِنْتَخَعَ السحابُ: بادل کا سارا پانی برسانا۔ ـــ الرجُلُ عن ارضہ: اپنی زمین سے دور ہونا۔ النُّخاع (تثلیث النون) جمع نُخُع ریڑھ کی ہڈی کا گودا، مغز، حرام مغز کا رشتہ Spinal Cord، ہڈی کا گودا، ہڈیوں کا مغز، حرام مغز، مخ، دماغ۔ النُّخاعَۃ کھنکھارتے وقت سینہ یا ناک سے نکلنے والی بلغم اور مواد۔ الاَنْخَعُ اسم تفضیل۔ بہت ذلیل، بہت مہلک یا ہلاک کرنے والا۔ المَنْخَع (ع ا) سر سے ملحق گردن کا پہلا منکا۔ حرام مغز کٹنے کی جگہ۔

۲۔ نَخَعَ ـــ نُخُوعًا لہٗ بحقہ: سے اس کے حق کا اقرار کرنا، عام لوگ جب نَخَعَہٗ کہتے ہیں تو معنی ہوتا ہے: اس نے اسے سختی سے جھنجھوڑا۔ نَخِعَ ـــ نَخَعًا فلانٌ بحقی: کسی کا میرے حق کا اقرار کرنا۔ النُّخُوعَ (مص): حق کا اقرار۔

نخاعۃ بلغم، بلغمی مادہ، رطوبت، چپچپا مادہ، تھوک، رال، کھنکھار کر نکالی ہوئی بلغم۔

نخف: نَخَفَ ـــ نَخْفًا و نَخِیفًا (بکری کا) چھینکتے وقت آواز نکالنا۔ اَنْخَفَ چھینکتے ہوئے بہت آواز نکالنا۔ النَّخفۃ پہاڑ کی چوٹی کا گڑھا۔ النِّخاف جمع اَنْخِفۃ موزہ۔

نخل: نَخَلَ ـُ نَخْلًا الدقیقَ: آٹا چھاننا اور بھوسی نکالنا۔ ـــ الشیءَ: کو پسند کرنا، صاف کرنا۔ ـــ النصیحۃَ او الودَّ لِفلان: سے خالص دوستی کرنا یا کو خالص نصیحت کرنا۔ ـــ نَخْلًا و نَخَّلَ السحابُ الثلجَ: بادل کا برف برسانا۔ برفباری کرنا۔ تَنَخَّلَ و انتَخَلَ الشیءَ: کو چن کر عمدہ حصہ لینا۔ النّاخِل فا کہا جاتا ہے: انہ ناخِلُ الصدر: وہ بے غرض نصیحت کرنے والا ہے۔ نصیحۃٌ ناخِلَۃ: سچی اور مخلصانہ نصیحت۔ النَّخل واحد نَخْلَۃ (ن): کھجور کا درخت خرما، اس کے پھل سے مربے اور ایک قسم کی شراب بنائی جاتی ہے۔ جو نبیذ النَّخل (کھجور کی شراب) کے نام سے معروف ہے۔ النُّخالۃ بھوسی، چھانن۔ النَّخال بہت کھجوروں کے درختوں والا۔ آٹا چھاننے والا۔ النَّخِیل واحد نَخِیلَۃ (ن) کھجور کا درخت، چھوہارے کا درخت۔ النَّخِیلۃ جمع نَخائِل مخلصانہ نصیحت (کہا جاتا ہے: لایقبل اللّٰہُ الانخائِلَ القلوب: اللہ تعالیٰ تو صرف خالص نیتیں قبول کرتا ہے) طبیعت۔ المُنْخُل و المُنْخَل جمع مَناخِل: چھلنی۔

نَخَلَ ـُ نَخْلًا و تَنَخَّلَ و انْتَخَلَ ہٗ کو چھاننا، رولنا، پھٹکنا، چھان کر الگ کرنا، چھان بین کرنا، پرکھنا، لایساوی مِلءَ اُذُنِہٖ نُخالَۃً: وہ ایک مڑے ہوئے سکے کے مول کا بھی نہیں۔

نخم ا۔ نَخَمَ ـُ نَخْمًا کھیلنا، عمدہ گانا، صفت ناخِم۔ النُّخْمَۃ: حسن، شجاعت۔

۲۔ نَخِمَ ـَ نَخَمًا الرجُلُ تھک جانا۔ نَخْمًا و نَخَمًا و تَنَخَّمَ: کھنکھارنا، ناک صاف کرنا۔ النُّخمۃ اسم مرۃ۔ کھنکھار، رینٹ، سینے سے نکلنے والی بلغم یا ناک سے جھاڑی ہوئی رینٹ مادہ، تھپڑ، بلغم، بلغمی مادہ، رطوبت، چپچپا مادہ، لیس دار النُّخامۃ کھنکھار، رینٹ، بلغم۔

نَخِمَ ـَ نَخَمًا و تَنَخَّمَ: گلا صاف کرنا، بلغم تھوکنا، کھنکھار کر بلغم نکالنا۔ غُدَّۃٌ نُخامِیۃ بلغم یا کف پیدا کرنے والا وجود۔

نخو: نَخا یَنْخُو نَخْوَۃَ الرجُلَ: کی تعریف کرنا۔ ـــ نَخِیَ نَخْوَۃَ الرجُلُ: فخر کرنا، عظمت ظاہر کرنا۔ نَخّی ہٗ کو للچانا، پھسلانا، ترغیب دینا، اکسانا، ابھارنا۔ انتخی اِنتِخاءً: نخوت و تکبر میں بڑھنا۔ اِنتخی اِنتِخاءً علینا: (ہمارے ساتھ) غرور سے پیش آنا۔ ـــ من کذا: سے تنگ آجانا۔ النَّخْوَۃ (مص): بہادری مروت، عظمت، بڑائی، تکبر، فخر۔ ـــ انتخی نخوۃ علی ... کے بارے میں خود دار ہونا۔

مغرور ہونا، نخوت پسند ہونا، متکبر ہونا، حقارت سے دیکھنے والا یا ناک چڑھا ہونا۔ نَخّی و اَنْخی ہٗ کو برافروختہ کرنا، ابھارنا، اکسانا، برانگیختہ کرنا، میں تحریک پیدا کرنا، جگانا، بیدار کرنا، (جذبات وغیرہ)۔ نَخْوَۃ: خود پسندی، غرور، تکبر، اکڑ، اکڑفوں، ہیکڑی، کبر، نخوت، فخر و ناز، فخر و مباہات، عظمت، باوقار طرز عمل، عزت کا احساس، خودداری، بلندی، رفعت، سخاوت، فیاضی، کریم النفسی۔

ند: نَدَّ ـِ نَدًّا و نَدِیدًا و نُدُودًا و نِدادًا البعیرُ: اونٹ کا بدک کر بھاگنا۔ کہا جاتا ہے: نَدَّتِ الکلمۃُ: کلمہ کا شاذ ہونا۔ نَدَّدَ الابلَ: اونٹوں کو متفرق کرنا، منتشر کرنا۔ ـــ بالشیءِ: کو لوگوں میں مشہور کرنا، شائع کرنا۔ ـــ بفلانٍ: کے عیوب کھولنا، کو قبیح بات سنانا۔ ـــ صوتَہٗ: اپنی آواز اونچی کرنا۔ نادَّ مُنادَّۃً ہٗ: کی مخالفت کرنا اَنَدَّ الابلَ اونٹوں کو منتشر کرنا۔ تَنادَّ القومُ: باہم منافرت کرنا یا مخالفت کرنا، بکھر جانا۔ ـــ ت الابلُ اونٹوں کا بدک کر بھاگ جانا۔ النادُّ جمع نُدّاد فا: کہا جاتا ہے: لیس لھم نادٌّ: ان کے لئے رزق نہیں۔ النَّدُّ ٹیلہ، اونچی پہاڑی۔ عود۔ اگربتی (فارسی لفظ) النِّدُّ جمع اَنْداد: مثل، نظیر، مالہٗ نِدٌّ: اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اگر کی لکڑی۔ النَّدِید جمع نُدَداء م نَدِیدۃ جمع نَدائِد نظیر، مالہٗ ندید: اس کا کوئی نظیر نہیں۔ التَّنادّ مص، یوم التنادّ و یوم التناد: روز قیامت۔ ذھبوا انادید و تَنادِیدَ: وہ چاروں طرف بکھر گئے۔

نَدَّدَ بـ: کو بے نقاب کرنا، کی اصلیت بتانا، کی حقیقت سے آگاہ کرنا، پر تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا، کی عیب جوئی کرنا، نِدّ جمع انداد ہمسر، ہم رتبہ، ہم چشم، نظیر، مثال نمونہ، شریک، دشمن، حریف، رقیب، ثانی نَدِید جمع نُدَداء: ہم سر، حریف، رقیب۔

نداء۔ نَدَأَ ـَ نَدْأً ہٗ کو ڈرانا، خوفزدہ کرنا۔

۲۔ نَدَأَ ـــ نَدْأً اللحمَ: گوشت کو آگ میں دبانا۔ ـــ المَلَّۃَ: بھوبل بنانا۔ النَّدِیء: آگ میں دبایا جانے والا گوشت۔

۳۔ نَدَأَ ـــ نَدْأً علیھم: کے سامنے ظاہر ہونا۔ النَّدِیّ: سورج کے غروب یا طلوع کے وقت بادلوں کی سرخی۔ قوس قزح، دھنک۔ النَّدْأۃ و النُّدْأۃ بمعنی النَّدِیّ، تیز سورج کا دائرہ، چاند کا ہالہ۔

۴۔ النَّدْأۃ: مال یا مویشیوں کی کثرت۔ النُّدْأۃ دولت یا مویشیوں کی کثرت۔ ـــ جمع نَدْاء بودوں کے متفرق قطعوں میں سے ایک۔ النُّدْأۃ: پودوں کے متفرق قطعوں میں سے ایک۔ جمع نُدَا۔

ندب ۱۔ نَدَبَ ـُ نَدْبًا فلاناً للامر او إلى الامر: کو بلانا اور کسی کام کے کرنے کے لئے نامزد کرنا اور اکسانا۔ ـــ دُ الی الحرب: کولڑائی کی طرف روانہ کرنا۔ صفت فاعلی نادب صفت معقولی مندوب اور کام مندوب الیہ اور اسم النُدْبَة۔ نَدُبَ ـُ نَدَابَةً الرجُلُ زیرک ہونا، ہوشیار و چشت ہونا۔ انْتَدَبَ هُ لامرٍ: کے لئے بلاوے پر آنا۔ ـــ لفلان: کی تردید کرنا۔ کہا جاتا ہے: تَكَلَّمَ فانتدب له فلانٌ: وہ بولا تو فلان نے اس کی تردید کی۔ خُذْما انْتَدَبَ: جو آسان ہو لے لو۔

النَدْب (مص) جمع نُدُوب و نُدَباء: فضیلتوں کی طرف پیش قدمی کرنے والا، چست، ذہین، شریف دانا، کم حاجت والا۔ فرسٌ نَدْبٌ: تیز گھوڑا۔ النَدَب جمع أنْداب تیز تیر پھینکنے والی کمان، کہا جاتا ہے: رَمَيْنا نَدَبًا: ہم نے تیز تیز پھینکنے والی کمان کا قصد کیا۔ النَدْبَة: نَدْب کا مونث، اسم مرة۔ المِنْدَبَى: کم حاجت آدمی۔ حاجت جلد پوری کرنے والا۔

۲۔ نَدَبَ ـُ نَدْبًا الميّتَ: میت پر رونا۔ میت کی خوبیاں بیان کرنا۔ النُدْبَة میت کے محاسن بیان کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ عربيٌّ نُدْبَةٌ خوش بیان عرب۔ المَنْدَب جمع مَنادب میت پر رونا۔

۳۔ نَدِبَ ـَ نَدَبًا و نُدُوبًا و نُدُوبَةً الظهرُ: پیٹھ کا زخم کے نشان والی ہونا صفت: نَدِيب۔ ـ نَدَبًا الجرحُ: زخم کے نشان کا سخت ہونا۔ أنْدَبَ الجرحُ: زخم کے نشان کا سخت ہونا۔ ـــ الجرحُ فلاناً: زخم کا کسی پر نشان ڈالنا۔ ـــ بظهره و في ظهره: کی پیٹھ پر زخم کے نشان چھوڑنا۔ النَدَب (مص) ج نُدُب: زخم کا نشان۔ النَدْبَة و النَدَبَة جمع نَدَب و جج نُدُوب و أنْداب جلد پر باقی زخم کا نشان۔

۴۔ أنْدَبَ فلانٌ نفسَهُ و بنفسِهِ: کسی کا اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا۔ النَدَب جمع أنْداب: شرط، گھوڑ دوڑ میں بدی ہوئی رقم، مقابلہ میں بدی ہوئی رقم۔

ⓒ نَدَبَ ـُ نَدْبًا ہ ل: کو کسی عہدہ پر تعینات کرنا، مقرر کرنا، کو کے لئے مقرر کرنا۔ ـ ہ کو بطور نمائندہ یا نائب بنا کر بھیجنا، کی جگہ قائم مقام ہونا، کی قائم مقامی کرنا۔ ـ ہ ب: کو کوئی کام تفریض کرنا، کام کو کے سپرد کرنا، نَدِبَ ـَ نَدَبًا انگور آنا، زخم اچھا ہونا یا مندمل ہونا۔ أنْدَبَ زخم پر انگور آنا، زخم مندمل ہونا۔ إنْتَدَبَ ہ ل: کو کسی عہدے پر تعینات کرنا، مقرر کرنا، کو کسی کام سرانجام دینے کے لئے مقرر کرنا، کو کچھ کرنے کا کام تفویض کرنا، کے سپرد کوئی کام کرنا۔ ـــ ہ ل ب: کو کچھ کرنے کے لئے کا اختیار دینا، مختار کرنا، مجاز کرنا، کو کچھ کرنے کیلئے اجازت دینا۔ ـ ہ ل: کو کچھ کرنے کا حکم دینا، کے سپرد کوئی کام کرنا۔ ـــ ہ ل: (عسکری اصطلاح میں) کو کسی خاص مہم پر روانہ کرنا، منتقل کرنا، کو خاص فرائض ادا کرنے کے لئے مقرر کرنا۔ ـ نفسَهُ ل: بکلیۃً کسی کام میں لگ جانا، اپنے آپ کو کیلئے وقف کرنا، تن دہی سے کوئی کام کرنا۔ ـــ ہ علی: کسی ملک کو کسی دوسرے ملک پر انتدابی اختیارات دینا، ـــ لِ: کسی حکم یا ہدایت پر بخوشی عمل کرنا، کے لئے تیار ہونا، راضی ہونا، رضامند ہونا، آمادہ ہونا، مستعد ہونا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرنا، کی طرف متوجہ ہونا، نَدْب رونا، گریہ وزاری، ماتم۔ ندبہ، سخت افسوس، مرثیہ، نوحہ، بین، تفویض، پروانگی، اختیار، مختار نامہ، نیابت، فریضہ مفوضہ، ذمہ داری، سپردگی (اختیارات) قائم مقامی، تقرری، تعیناتی، جواز حکم اجازت، کسی علاقہ کو کسی ریاست کے زیر انتظام دینا، کسی ریاست کو علاقہ غیر پر حکومت کا اختیار دینا۔ نَدَب جمع أنْداب و نُدُوب داغ، زخم کا نشان، نشتر کا نشان، زخم کا داغ۔ نَدْبَة جمع أنْداب و نُدُوب: داغ، زخم کا نشان، زخم کا داغ، نشتر کا نشان، خارش زدہ زخم، کھرنڈ، نُدْبَة میت پر گریہ زاری، واویلا ماتم، فغان، مرثیہ، نوحہ، تدفین کے وقت کا گانا، ماتمی راگ۔ نَدَّابَة جمع نَدَّابات: کرایہ کی نوحہ گریں۔ مَنْدَب جمع مَنادِب: گریہ وزاری، نوحہ گری، ماتم۔ بابُ المَنْدَب: جنوب غربی عرب اور افریقہ کے درمیان آبنائے کا نام۔ إنْتِداب: نیابت، قائم مقامی، ماموری، تعیناتی، تقرر، سپردگی، تفریض، تحویل، اجازت، حوالگی، کسی کام کا سونپنا، حکم دینا، ہدایت کرنا، کسی کام کی ذمہ داری عائد کرنا، جواز، حکم، اجازت، کسی خاص مہم پر روانہ کرنا، فوج یا بیڑے کا وہ حصہ جو علیحدہ مہم پر بھیجا جائے، تفویض، خاص کام (جمع انتدابات): کسی علاقہ پر کسی ریاست کو حکومت کا اختیار دینا، کسی علاقہ کو کسی ریاست کے زیر انتظام دینا، لازمی قاعدہ۔ دولة الانتداب: انتدابی طاقت لجنة الانتدابات: (اقوام متحدہ کا) انتدابی کمیشن۔ انتدابی: انتدابی۔ ادارةٌ إنْتِدابيَة انتدابی ادارہ (انتظامیہ) نادِبَة جمع نادبات و نَوادِب: کرایہ کی نوحہ گر۔ مَنْدُوب: جس پر ماتم کیا گیا، آہ وبکا کی گئی، جس کا افسوس کیا گیا، جس کا ماتم ہو رہا ہے، جس کی موت پر افسوس ہو، افسوسناک، غمناک، شرمناک، جمع مَنْدُوبون: قائم مقام، نمائندہ، وکیل، مندوب، کارندہ، کارکن، نیم اہلکار، کمشنر، حاکم اعلیٰ، پریس کا نمائندہ، مراسلہ نگار، نامہ نگار، (اخبار کا) رپورٹر (اسلامی قانون کی اصلاح میں) جس کی سفارش کی گئی ہو، جس کا مشورہ دیا گیا ہو، جسے قابل قبول بنایا گیا ہو۔ مَنْدُوبُ التأمِين: انشورنس ایجنٹ، بیمہ ایجنٹ (Insurance agent)، منْدُوبٌ خاصٌّ: خصوصی سفارتی نمائندہ مَنْدُوبٌ سامٍ: ہائی کمشنر (High commissioner)، مندوبٌ فوقَ العادة: غیر معمولی سفیر Ambassader Extraordinary۔ مندوبٌ مُفَوَّضٌ: پورے اختیارات والا نمائندہ ہو، مختار عام Pleniptentiary وزیر مندوبٌ فوقَ العادة و وزيرٌ مُفَوَّضٌ: غیر معمولی سفیر اور مدار المہام (Ambassade Extra ordinary and minister plenipotentiory) مَنْدُوبِيَّة: تفویض، ہائی کمشن High commission۔ مُنْتَدَب: قائم مقام، جسے نائب یا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہو، جسے مختار بنایا گیا ہو، جسے کوئی کام سونپا گیا ہو، جسے مقرر کیا گیا ہو تعینات کیا گیا ہو۔ دولةٌ مُنْتَدَبَة: انتدابی طاقت۔

ندح ۱۔ نَدَحَ ـَ نَدْحًا الشيءَ: کو چوڑا کرنا، وسیع کرنا۔ نَادَحَ هُ: سے تعداد میں بڑھنا، سے شمار میں زیادہ ہونا، سے مقدار یا تعداد میں ہمسری کرنا، مقابلہ کرنا، کا مقدار یا تعداد میں مدمقابل ہونا۔

تَنَدَّحَتِ الغنمُ في مرابضها او مسارحها: بکریوں کا بیٹھنے کی جگہ یا چراگاہ میں بکھرنا اور پھیلنا، زیادہ کھانے سے پھولنا۔ إنْتَدَحَتِ الغَنَمُ في مرابضها او مسارحها: بکریوں کا بیٹھنے کی جگہ یا چراگاہ میں بکھرنا، پھیلنا۔ النِدْح: دور سے نظر آنے والی چیز۔ النَدْح و النُدْح جمع أنْداح: کشادگی، کثرت، پہاڑ کی چوٹی۔ ـــ والنَدْحَة و النُدْحَة: فراخ زمین المَنْدُوحَة و المُنْتَدَح: کشادگی، فراخی کہا جاتا ہے: لك عن هذا الامر مندوحةٌ او منتدَحٌ: تم اس کام سے آزاد ہو۔ إنّ في المَعارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عنِ الكَذِب: کنایوں میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔ لَكَ مُنْتَدَحٌ في البلاد: تمہارے لئے ملک میں وسیع و عریض راستہ ہے۔ ارضٌ مَنْدُوحَةٌ: کشادہ زمین۔ المَنادِح: کشادہ زمینیں۔

۲۔ النِدْح: بوجھ

ⓒ نَدَحَ ـَ نَدْحًا ہ: کو پھیلانا، بڑھانا، لمبا کرنا، وسیع کرنا، کشادہ کرنا، وسعت دینا، بڑا کرنا، کا حجم بڑھانا۔ نَدْحَة و نُدْحَة: وسیع کھلی جگہ، (عمل کی) آزادی لانُدْحَةَ عَنْهُ: یہ ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر نہ بن پڑے گی۔ یہ اٹل ہے۔ مبرم ہے اس سے بچنا ناممکن ہے۔ لا

أَجِدُ لی نَدْحَةً عن: میں ایسا کرنے پر مجبور محسوس کرتا ہوں۔ مَنْدُوحَة جمع مَنَادِح ومُنْتَدَح: راستہ، صورت، چارہ کار، متبادل صورت، چارہ، پسند، انتخاب، آزادی عمل۔ لامندوحةَ له عن: یہ اس کے لئے ناگزیر ہے، انتہائی ضروری ہے، لازمی ہے۔ لَكَ عنه مندوحةٌ او مُنْتَدَحٌ: یہ اب تمہارا کام ہے، یہ تمہارا فرض ہے، یہ تمہارے لئے اختیاری ہے۔ لَمْ يَرَ مندوحةً مِن: پر مجبور محسوس کرنا۔

ندخ: نَدَخَ ـ نَدْخًا ہٗ: سے ٹکرانا، سمندری، سفر کرنے والا کہتا ہے: أَنْدَخْنَا المركبَ ساحِلَ كَذَا: ہم نے جہاز فلاں ساحل سے ٹکرایا۔ تَنَدَّخَ الرجُلُ: بڑ ہانکنا۔ الأَنْدَخ: بے وقوف، غبی، کم گو۔ المُنْدَخ: بری بات کہنے یا سننے کی پروا نہ کرنے والا۔

ندر ۱۔ نَدَرَ ـــ نَدْرًا ونُدُورًا الشيءُ: کسی چیز سے گر کر نمایاں ہونا ـــ من موضعه: جگہ سے ہٹنا، دور ہونا۔ فلانٌ مِن قومِهِ: قوم سے نکل جانا ـــ ت الشجرةُ: درخت کی پتیاں نکلنا یا ہری ہونا ـــ النباتُ: پودے کا پتے نکالنا ـــ الشيءُ: نایاب و نادر ہونا ـــ الرجُلُ في فضلٍ او علمٍ: فضیلت اور علم میں آگے بڑھنا ـــ الرجُلُ: مرنا۔ نَدُرَ ـ نَدَارَةً الكلامُ: کلام کا فصیح ہونا، عمدہ ہونا، نادر الوجود ہونا۔ أَنْدَرَ: نادر بات کہنا یا کرنا ـــ العظمَ: ہڈی کو اپنی جگہ سے ہٹانا ـــ الشيءَ: کو گرانا، ساقط کرنا۔ تَنَادَرَ علينا: ہمیں عجیب عجیب باتیں بتانا۔ تَنَادَرُ الشيءُ: چیز کو گرانا۔ إسْتَنْدَرَهُ: کو نادر جاننا۔ النادِر فا شاذ و مخالف قیاس ـ من الكَلِم: کم یاب کلام ـ ـ من الجبل: پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا حصہ۔ النادِرة جمع نوَادِر: نادر کا مونث۔ کہا جاتا ہے: هو نادِرَةُ الزمان: وہ یکتائے روزگار ہے۔ نَوَادِرُ الكلام: عجیب کلام، شاذ کلام، فصیح، عمدہ۔ النَّدْر: نادر کہا جاتا ہے: شيءٌ نَدْر: نادر چیز (مصدر سے وصف ہے) النُّدْرَة: کمیابی الـ کمیابی (کہا جاتا ہے: لايكونُ ذلك الانُدْرَةً، النَّدْرَة: وہ تو بہت کم ہوگا) کان میں پایا جانے والا سونے یا چاندی کا ٹکڑا۔ النَّدَرَی: نادر، کمیاب۔ لقيتهُ وفي نَدَرَی والنَّدَرَی و في النَّدَرَی: میں نے اس سے گاہے یا ایک بار ملاقات کی۔

۲۔ نَدَرَ ـــ نَدْرًا ونُدُورًا الشيءَ: کا تجربہ کرنا۔ القومُ اثرَهُ: کے پیچھے جانا ـــ المالُ: مویشیوں نے سرسبز پودوں کا کھوج لگایا۔

۳۔ الأَنْدَر جمع أَنَادِر: گیہوں کا کھلیان، کھلیان۔ موٹی رسی۔

○ نَدَرَ ـ نَدْرًا ونُدُورًا: شاذ ہونا، نادر ہونا، نایاب ہونا، انوکھا ہونا، نرالا ہونا، غیر معمولی ہونا۔ نَدُرَ ـ نَدَارَةً: عجیب ہونا، نرالا ہونا، انوکھا ہونا، طرفہ ہونا، مشتبہ ہونا، غیر معمولی ہونا۔ تَنَدَّرَ ب / علی: کو مذاق کرنا، چھیڑنا، سے دل لگی کرنا۔ تَنَادَرَ: ایک دوسرے کو کہانیاں اور چٹکلے یا لطیفے سنانا۔ نَدْر: نادر، عجیب، انوکھا۔ نَدْرَة ونُدْرَة ونُدُورَة: ندرت، نادر شے، نادرہ روزگار، کمیابی، نایابی، ہلکاپن، لطافت۔ نَدْرَةً: شاذ و نادر، کبھی کبھی، بہت کم، کبھی کبھار، گاہے گاہے۔ في الندرة: شاذ و نادر، کبھی کبھی، بہت کم، کبھی کبھار، گاہے گاہے۔ أَنْدَر جمع أَنَادِر: کھلیان۔ أَنْدَر: زیادہ شاذ، زیادہ نادر، زیادہ نایاب، زیادہ انوکھا یا نرالا، زیادہ عجیب، عجیب تر۔ مَنْدَرَة جمع مَنَادِر: کھلیان۔ مُنَادَرَات: پر لطف، ظرافت بھرے، موضوع، پھبتیاں، لطیفے۔ تَنَدُّر: تفریح، دل لگی، مذاق، چھیڑ چھاڑ، ہنسی، مذاق۔ تَنَادُر: زندہ دلانہ گپ شپ یا گپ بازی۔ نادِر: نادر، کمیاب، نایاب، شاذ، کبھی کبھار کا، عجیب، غیر معمولی، بہت عمدہ، اعلیٰ، قیمتی، گراں بہا، انمول، سنکی، خبطی، عجیب سا شخص۔ نادِرًا: شاذ و نادر، کبھی کبھی، بہت کم، کبھی کبھار، گاہے گاہے۔ في النادر: شاذ و نادر، کبھی کبھی، بہت کم، کبھی کبھار، گاہے گاہے۔ نَادِرُ المثال: بے نظیر، یکتا، عدیم المثال، منفرد، بے مثال، فقید المثال۔ عُمْلَةٌ نادِرَةٌ: سکے، زر بخت، نادِرَة جمع نوَادِر: ندرت، نادر شے، نادرہ، روزگار، عجیب و غریب واقعہ، نادر شاذ، لفظ، مظہر، حیرت انگیز طور پر قابل غیر معمول اوصاف کا حامل، غیر معمولی شخص، مضحکہ خیز اور عجیب کہانی، لطیفہ، ہنسی، مذاق، حادثہ، واقعہ۔ مَنْدَرَة جمع مَنَادِر: ملاقاتیوں کے استقبال کا دیوان خانہ مَنَادِر: پارٹیاں (جیسے چائے پارٹی)

س: ۱۔ نَدَسَ ـ نَدْسًاهُ بالرمح: کو نیزہ مارنا ـــ ہٗ بكلمة: کے بارے میں کوئی بات کہہ دینا ـــ به الارضَ: کو زمین پر پچھاڑنا ـــ ہ عن الطريق: کو راستہ سے الگ کرنا، ہٹا دینا ـــ الارضَ برجْلِهِ: زمین پر پاؤں مارنا۔ نَادَسَ ہٗ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔ تَنَدَّسَ: گر پڑنا، بچھڑ جانا، کہا جاتا ہے ندس به الارض فتندس: اس نے اسے پچھاڑا تو وہ بچھڑ گیا۔ تَنَادَسَ القومُ: ایک دوسرے کو بھلا برا کہنا۔ رِمَاحٌ نَوَادِس: آر پار ہونے والے تیر۔

۲۔ نَدَسَ ـ نَدْسًا عليه الظنَّ: پر بدگمانی کرنا۔

۳۔ نَدِسَ ـــ نَدَسًا الغلامُ: لڑکے کا سمجھدار اور ہوشیار ہونا۔ صفت نَدْس ونَدِس ونَدُس

الرجُلُ الاخبارَ وعَنِ الاخبارِ: خبروں کی جستجو میں رہنا۔ النَّدُس (مص) ہلکی پست آواز، آہستہ آواز و جلد سننے والا۔ النَّدَس: سمجھ زیرکی۔ المِنْداس من النساء: چست و چالاک عورت۔

۴۔ تَنَدَّسَ ماءُ البئر: کنویں کے پانی کا بہنا۔

۵۔ المَنْدُوسَة (ح): گبریلا۔

○ نَدَسَ ـــ نَدْسًا ہ: کو زمین پر گرانا، پچھاڑنا، کو گالیاں دینا، بدنام کرنا، رسوا کرنا، کی بدگوئی کرنا، کی ساکھ ختم کرنا۔

ندش: نَدَشَ ـِ نَدْشًا و نَدَشًا عن الشيء: کو تلاش کرنا، پر غور کرنا ـ القطنَ: روئی دھنا۔

ندص: ۱۔ نَدَصَ ـ نَدْصًا ونُدُوصًا الشيءُ من الشيءِ: چیز کا چیز سے نکلنا ـ الرجُلُ: جلد نکلنا۔ نَدَصَتْ عينُهُ: کی آنکھوں کا ابھرا ہوا ہونا۔

نَدِصَ ـــ نَدَصَات البثرةُ: پھنسی سے دبانے پر پیپ و مواد نکلنا۔ أَنْدَصَ و اسْتَنْدَصَ حقَّهُ من فلان: سے اپنا حق وصول کرنا۔

۲۔ نَدَصَ ـــ نَدْصًا و نُدُوصًا على القوم: لوگوں پر ناپسندیدہ چیز لیکر ظاہر ہونا ـ القومَ: لوگوں سے برائی کے ساتھ پیش آنا۔ امرأةٌ نَدَصَة: بے وقوف بدکلام عورت، ہلکی اور بے عقل عورت۔ المِنْدَاص ج مَنَادِيص: لوگوں کے پاس ناپسندیدہ چیز لے کر آنے والا اور شر کا مظاہرہ کرنے والا۔ امرأة مِنْدَاص: بے وقوف بدکلام عورت، ہلکی اور بے عقل عورت۔

ندغ: ۱۔ نَدَغَ ـــ نَدْغَاهُ: کو انگلی چبھونا ـــ ہٗ بالرمح او الكلام: کو نیزہ مارنا یا برا کہنا ـــ الرجُلَ: کو غمگین کرنا ـــ تهُ العقربُ: کو بچھو کا ڈسنا۔ نُدِغَ الصبيُّ: بچہ کا گدگدایا جانا نَادَغَ ہٗ: باہم عشق بازی کرنا۔ أَنْدَغَ به: کے ساتھ برے سلوک سے پیش آنا۔ النُّدْغَة: ناخن کی جڑ کی سفیدی۔ المِنْدَغ: نیزہ مارنے والا، باتوں سے دکھ پہنچانے والا۔ المِنْدَغَة: ناخن کی جڑ کی سفیدی۔

۲۔ نَدَّغَ العَجينَ: گوندھے ہوئے آٹے پر خشک آٹا ڈالنا۔

۳۔ إِنْتَدَغَ: آہستہ ہنسنا، مسکرانا۔

۴۔ النَّدْغ والنِّدغ (ن): جنگلی صعتر (ایک خوشبودار پتیوں کا پودا یہ پتیاں کھانے میں استعمال ہوتی ہیں (wild thyme)

ندف: ۱۔ نَدَفَ ـِ نَدْفًا القطنَ: روئی تومنا یا دھنا ـــ الدابةَ: جانور کو تیز ہانکنا، سختی سے ہانکنا ـــ بالعُود او المِزْهر: بربط یا سارنگی بجانا ـــ السماءُ بالثلج: آسمان کا برف گرانا۔

ندف ۱ ندف جانور کا تیز گام ہونا۔ نَدَفَ نَدْفاً القطنَ: روئی دھنا، تومنا۔ انْدَفَ بربط کی آواز کی طرف مائل ہونا ۔۔۔ الدابّۃ کو سختی سے ہانکنا۔ النُدفۃ تھوڑا سا دودھ۔ النّداف جلاج، پونیا، دھنیا، روئی دھننے والا۔ بربط نواز۔ النِدافۃ روئی دھننے کا پیشہ۔ النَدِیف من القطن دھنی ہوئی روئی۔ المِندَف و المِندَفۃ روئی دھننے کی کمان۔

۲۔ ندَفَ ۔ِ نَدْفًا لطعام کھانا کھانا۔ انْدَفَ الکلبَ: کتے کو بلانا۔ النَداف بہت کھانے والا۔

ن۔ ندف روئی دھنا، جھاڑ۔ النَدف اون صاف کرنے کا کنگھا۔ نُدفۃ جمع نُدَف چھلکا، گالا، اون یا روئی کا گچھا، یا گالا، اون کی کترن یا گودڑ۔ نُدفۃ الثلج: برف کا گالا۔ ندیف و مندوف دھنی ہوئی یا تومی ہوئی روئی۔ مِندَف جمع مَنادِف روئی دھننے، تومنے کی کمان۔

ندل ۱۔ نَدَلَ ۔ُ نَدْلاً الشئَ کو جلدی سے کھینچنا یا اچک لینا، منتقل کرنا ۔۔۔ بسلحہ بیت کرنا۔ الدلوَ من البئر ڈول کو کنویں سے نکالنا۔ نَدِل ۔َ نَدَلاً ت یدُہٗ کے ہاتھ کا میلا ہونا۔ تندّل و تمندل بالمِندیل: رومال یا تولئے سے پونچھنا، رومال سر پر لپیٹنا۔ انتدل المال نال برداشت کرنا۔ النَدْل (مص) میل کچیل۔ النُدُل کھانا کھلانے والے خادم۔ المَندل جمع مَنادِل موزہ۔ جادو۔ المِندل غبن کرنے والا، خائن۔ ۔۔۔ و المَندیل و المِندیل جمع مَنادِل و مَنادیل رومال تولیہ۔

۳۔ مندل جمع منادِل خوشبودار لکڑی۔

ن۔ ندل ۔ُ ندلاً ہ کو چھین لینا، جھپٹ لینا۔ نَدْل کمینہ، حقیر، ذلیل، خبیث۔ ۔۔۔ التموگری، دھرمٹ، ٹھوکنے، کوٹنے کی مشین۔ نادِل جمع نُدُل ملازم جو کھانا کھلاتا ہے۔ خدمت گار۔ ضَربُ المَندَل جادو جس میں ایک قسمت بتانے والا یا معمول شیشہ جیسی سطح کو غور سے دیکھتے ہوئے پیشین گوئی کرتا ہے۔

ندم ۱۔ ندِم ۔َ نَدَمًا و ندامۃً و تندّم علی مافعل اپنے کئے پر نادم و پشیمان ہونا۔ انْدَمَ ہ کو پشیمان کرنا۔ النادِم جمع نادِمون و نُدّام و النُدمان جمع ندامی و ندمان (مفرد کی طرح) م ندمانۃ وندمی نادم ہونے والا، نادم پشیمان۔ النَدَم ندامت، پشیمانی۔ المَندَمۃ: باعث ندامت۔

۲۔ نادَمَ نِدامًا و مُنادمۃً ہٗ علی الشراب کا شراب نوشی میں ہم نشین ہونا۔ تنادم القومُ علی الشراب: شراب نوشی میں ہم نشینی کرنا۔ النَدمان شراب پینے کا ساتھی، النَدْم تیز طبیعت، دانا، زیرک۔ النَدِیم و النَدِیمۃ جمع نِدام و نُدَماء و نُدمان (جیسے قضیب و قُضبان) شراب پینے میں ساتھی، رفیق، ساتھی۔

۳۔ اِنْدَمَ الامرُ کام آسان ہونا، کہا جاتا ہے۔ خُذ ما اِنْدَمَ جو آسان ہو لے لو۔

۴۔ النَدم اثر۔

ن۔ ندِمَ ۔َ نَدَمًا و ندامۃً علی پر پچھتانا، پر ہاتھ ملنا، پشیمان ہونا، متاسف ہونا۔ نادَمَ ہ کے ساتھ پینا، کے ساتھ کھل کے شراب پینا، بلانوشی کرنا اور داد عیش دینا۔ تَنَدَّمَ: بمعنی ندم۔ تنادَم باہم مل کر پینا، باہم بلانوشی کرنا۔ مُنادَمۃ پینے میں رفاقت، گہری دوستی۔

ندہ ۱۔ نَدَہَ ۔َ نَدْہًا الرجلَ آواز دینا ۔۔۔ الرجلَ کو ڈانٹنا، جھڑکنا، چلا کر نکال دینا، دھتکار دینا ۔۔۔ الابلَ: اونٹوں کو اکٹھا ہانکنا۔ النُدْہۃ آواز۔ والنُدْہۃ: مویشیوں کی کثرت۔ النَوادِہ جھڑکیاں، دھمکیاں۔

۲۔ اِنْتَدَہَ و استَندَہَ الامرُ کام کا درست ہونا۔

ن۔ ندَہَ ۔َ ندْہًا ہ کو ہانکنا، ترغیب دینا، مہمیز کرنا، کو ہانک کر لے جانا۔

ندو ۱۔ نَدَا یَنْدُو نُدُوًّا الرجلُ بخشش کرنا۔ نَدِیَ یَنْدَی نَدًی و نَداوۃً و نُدُوَّۃً الشئُ: بھیگنا، گیلا ہونا، تر ہونا ۔۔۔ ت الارضُ زمین کو تری پہنچنا، کہا جاتا ہے: مانَدِیتُ بشئٍ من فلانٍ مجھے اس سے کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوئی۔ رمیتُ ببصری فلم یَنْدَ لی شئٌ میں نے نگاہ ڈالی لیکن میرے لئے کوئی چیز بھی متحرک نہیں ہوئی۔ ما نَدِیَنی من فلانٍ شئٌ اکرھہ: مجھے فلاں شخص سے کوئی ناپسندیدہ گزند نہیں پہنچی۔ لم یَنْدَ منھم نادٍ ان میں سے کوئی نہیں رہا۔ ندّی تَنْدِیَۃً الشئَ: کو تر کرنا ۔۔۔ الفرسَ گھوڑے کو پانی پلانا، گھوڑے کو دوڑا کر پسینہ سے تر کرنا۔ نادَی مُناداۃً و نِداءً النبتُ نباتات کا اگنا اور گنجان ہونا۔ اَنْدَی اِنْداءً الشئَ: کو تر کرنا ۔۔۔ الرجلُ بڑا سخی ہونا، داد و دہش والا ہونا ۔۔۔ الکلامُ کلام کہنے والے یا سننے والے کا بدعاقبت کے خوف سے پسینہ پسینہ ہو جانا۔ تَنَدَّی الرجلُ سخی ہونا، مہربان ہونا، سیراب ہونا کہا جاتا ہے۔ شرب حتی تَنَدَّی وہ پی پی کر سیراب ہو گیا ۔۔۔ المکانُ جگہ کا تر ہونا۔ اِنْتَدَی کہا جاتا ہے: ما انتدیتُ منہ شیئًا میں نے اس سے کوئی بھلائی نہیں پائی۔ النَدَی (مص جمع اَنْداء و اَنْدِیۃ بارش، سخاوت، مہربانی، بھلائی، سبز گھاس، شبنم، چربی، تر مٹی۔ النَدوۃ ایک مرتبہ سخاوت۔ المَنْدُو قدونوں کو پانی پلانے کی جگہ۔ النَدِی و النَدِیّ م نَدِیَۃ و نَدِیّۃ: تر، گیلا، کہا جاتا ہے: فلان نَدِی الکفّ و نَدِیّ الکفّ فلاں شخص فیاض ہے۔ النَدْیان تر، گیلا۔ الاَنْدَی: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے: فلان اَنْدَی من فلانٍ: فلاں فلاں سے زیادہ فیاض اور صاحب خیر ہے ۔۔۔ ھُو اندی صوتًا منہ اس کی آواز اس سے زیادہ جاندار اور اچھی ہے۔ التَنْدِیَۃ: مص۔ تندیۃ الخیل: گھوڑوں کو چھریرے بدن والا بنانا اور دوڑ دوڑ کر ان کا پسینہ سے تر ہونا۔ المُنَدَّی وہ جگہ جہاں گھوڑوں کو چھریرے بنانے اور پسینہ لانے کے لئے دوڑایا جاتا ہے۔ المُنْدِیۃ جمع مُنْدِیات شرمناک بات۔

۲۔ نَدَا یَنْدُو نَدْوًا القومُ لوگوں کا جمع ہونا اور مجلس میں حاضر ہونا ۔۔۔ القومَ لوگوں کو مجلس میں جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ ما یَنْدُوھم النادی مجلس ان سب کو سما نہیں سکتی۔ نادَی مُناداۃً و نِداءً فلانًا کو مجلس میں ہم نشین بنانا، کے ساتھ مشورہ کرنا، سے مفاخرت کرنا۔ تَنادَی القومُ لوگوں کا مجلس میں جمع ہونا۔ اِنْتَدَی القومُ لوگوں کا مجلس میں جمع ہونا ۔۔۔ الرجلُ: مجلس میں حاضر ہونا۔ النَدْوَۃ مجلس، مشاورت، جماعت۔ دارُ الندوۃ ہر وہ گھر یا عمارت جس سے رجوع کیا جائے اور جس میں اکٹھا ہوا جائے۔ النادِی (فا) جمع اَنْدِیۃ و نَوادٍ و جمع اَنْدِیات: مجلس، کلب (Club) النادِیۃ جمع نادیات و نَوادٍ: نادی کا مونث۔ النَدِیّ مجلس۔ المُنْتَدَی: مجلس۔

۳۔ نَدَا یَنْدُو نَدْوًا الرجلُ الگ ہونا، جدا ہونا ۔۔۔ الشئُ: بکھرنا۔ نَدِیَ یَنْدَی نَدًی و نَداوۃً و نُدُوّۃً الصوتُ: آواز کا دور کی ہونا۔ نادَی مُناداۃً و نِداءً الرجلَ و بالرجل: کو پکارنا ۔۔۔ بِسِرّہٖ اپنا راز ظاہر کرنا ۔۔۔ الشئَ کو دیکھنا، جاننا، کہا جاتا ہے: نادَی الطریقُ لفلانٍ و ناداہ: کو راستہ کا دکھائی دینا، پر راستہ کا ظاہر ہونا۔ تَنادَی القومُ ایک دوسرے کو پکارنا۔ نخل نادِیۃ جمع نادِیات و نَوادٍ کھجور کا درخت جو پانی سے دور ہو۔ نادِیاتُ الشئِ چیز کی ابتدائیں۔ النَدَی جمع اَنْداء و اَنْدِیۃ انتہا، خوشبو۔ النِداء و النُداء پکار، آواز، کہا جاتا ہے۔ ھو نَدِیُّ الصوت: اس کی آواز اچھی اور قوی ہے۔ التَنادِی (مص) یوم التناد روز قیامت۔ النَوادِی متفرق اونٹنیاں، گوشے، نَوادِی الدھر حوادث زمانہ۔

ن۔ ندا ۔ُ نَدْوًا ہ: کو پکارنا، مدعو کرنا ۔۔۔ اجتماع یا

اجلاس طلب کرنا، منعقد کرنا۔ـــــ: اکٹھا ہونا، جمع ہونا، منعقد ہونا۔ندِیَ ـــ نَدًی ونَدَاوَۃً ونُدُوَّۃً: تر ہونا۔ گیلا ہونا، شبنمی ہونا، نم ہونا، سیلا ہونا، مرطوب ہونا۔ شي یندی لہ الجبین: شرمناک رسوائی کی موجب بات، پریشان کن اور سخت بری بات۔نَدَّی ہ: کو نم کرنا، سیلا کرنا، مرطوب کرنا، تر کرنا، گیلا کرنا، شبنم سے تر کرنا، پر اوس ڈالنا۔نادیٰ ہ ب، علی: کو پکارنا، بلانا۔ـــــ: چلانا، چیخنا، اونچی آواز سے کہنا، چیخ اٹھنا، پکار اٹھنا۔ـــــ ہ/ علی: کو بلانا، بلوانا، بلا بھیجنا۔ـــــ ہ: سے اونچی آواز سے کہنا، کو پکارنا۔ـــــ ب: کا تقاضا کرنا، کی دعوت دینا، کا اعلان کرنا، پر زور دینا۔نـــادیٰ: اعلان کرنا، اناؤنسر کے فرائض سرانجام دینا۔ـــــ علی: پھیری لگا کر سامان بیچنا۔نُودِیَ بہ رئیسًا: اعلان کیا جانا کہ وہ صدر ہو گیا ہے۔انْدیٰ بمعنی نَدَّی نیز۔انْدَیٰ: شریف ہونا، سخی ہونا، فیاض ہونا، عالی حوصلہ، بلند ہمت، اولوالعزم، عالی ظرف، فراخ حوصلہ یا کریم النفس ہونا۔تَنَدَّی: نم ہونا، سیلا ہونا، مرطوب ہونا، شبنم سے تر ہونا، اپنے آپ کو فیاض، دریا دل، کشادہ دل، آزاد منش، آزاد خیال، یا حریت پسند ظاہر کرنا۔تـَـنَـادیٰ وإنْتَدیٰ: اکٹھا ہونا، مجتمع ہونا، جمع ہونا، کلب بنانا۔ نَدْوَۃ: کونسل، مباحثہ کرنے والا گروہ، مطالعاتی گروہ، کلب۔دار الـنَّـدْوَۃ: سٹی ہال (city hall) ٹاؤن ہال (Town hall)، پارلیمنٹ، ایوان نمائندگان، ایوان نائبین۔نُـدُوَّۃ ونَدَاوَۃ: نمی، سیل، رطوبت، تری، گیلا پن۔نَدًی جمع أنْـداء وأنْـدِیَۃ: نمی، سیل، رطوبت، تری، گیلا پن، شبنم، اوس، تازگی، تروتازگی، سخاوت، عالی ظرفی، دریا دلی، آزاد خیال۔نَـدٍ ونَدْیَان: نم، سیلا، مرطوب، تر۔نَـدِی الکف: سخی، فیاض، آزاد خیال۔ نِداء جمع نِدَاءَات: پکار، چیخ و پکار۔واویلا، غل شور، اطلاع نامہ، حکمنامہ، عام اعلان ڈھنڈورا، منادی، اپیل، خطاب، ندائیہ، حالت ندائیہ (گرامر)۔ـــــنداء الاغـــاثۃ: امداد کے لئے پکار، سخت خطرہ کا اشارہ۔ حرف النداء: صرف ندبہ و ندا، فجائیہ۔أصْدَرَ نداءً لِ: کو باضابطہ اعلان جاری کرنا۔مُـنَاداۃ: پکارنا، چیخنا، چلانا، پکار، پبلک نوٹس، اعلان، سرکاری اعلان۔بیـع المناداۃ: علی الاعلان فروخت، نیلام، نیلامی۔نَادٍ جمع أنْـدِیَۃ ونَـوَادٍ: کلب، سرکل، ایسوسی ایشن، کلب ہاؤس۔نادِ ریاضی: اتھلیٹک کلب (جہاں ورزشیں اور کسرتیں کی جاتی ہیں)۔دارُ الـنـادي: کلب ہاؤس (Club House)۔مُنَدًّی: تر، گیلا، سیلا، شبنم یا اوس سے تر، شبنمی، فرحت بخش، تازہ دم کرنے والا۔مُـنَـادٍ:

پکارنے والا، منادی، منادی کرنے والا، نقیب، نیلام کرنے والا، نیلامی بولنے والا۔ اناؤنسر (announcer)۔مُنْدِیَۃ جمع مُنْدِیات: شرمناک برا کام۔ توہین۔ گالی، گستاخی۔مُنْتَدًی جمع مُنْتَدَیات: اجتماع کی جگہ، اسمبلی روم، یعنی اجتماع کا کمرہ، کلب (Club)، فورم (Forum) (عوامی جلسہ گاہ، مرکز مباحثہ)

نذ: نَـذَّ ـُ نَذِیذًا: کا رینٹ یا کھنکار نکلنا۔ پیشاب کرنا۔ النذیذ (مص): رینٹ، کھنکار، بلغم۔

نذر: انَـذَرَ ـِـُ نَذْرًا ونُذُورًا: نذر ماننا، کہا جاتا ہے نذر مالہٗ: اس نے اپنے مال کی نذر مانی۔نذر علی نفسہ لِـلّٰـہِ من المال کذا: اس نے اللہ تعالیٰ کیلئے اپنے اتنے مال کی نذر مانی۔ـــ الابُ الولدَ: باپ کا بیٹے کو کلیسا کا خادم یا محافظ بنانا، عبادت کے لئے وقف کرنا، إنْتَذَرَ علی نفسہ کذ: اپنے آپ پر کچھ واجب کرنا۔الـنَّذْر (مص) جمع نُذُور: تاوان (کہا جاتا ہے قضی بالنذر: تاوان مقرر کرنا) اللہ تعالیٰ کے لئے مانی ہوئی چیز، منت، نذر۔نذر الرہبنۃ عند النصاری: خود اختیاری کی ہوئی عفت، اطاعت اور غربت۔ النذیرۃ جمع نَذَائِر: نذر کے طور پر دی ہوئی چیز۔

۲نـذَرَ ـِـُ نَذْرًا ونُذُورًا الجیشَ فلانًا: لشکر کا کسی کو دیدبان بنانا۔نـذِرَ ـَ نَذَرًا بہ: کو جاننے کے بعد چوکنا ہو جانا اور اس کیلئے تیاری کرنا۔ کہا جاتا ہے نَذِرُوا بالعدو: وہ دشمن سے واقف ہو کر چوکنے ہو گئے۔انْـذَرَ إنْذَارًا ونَـذِیرًا ونَـذْرًا نُـذُرًا ونُذْرًا ہٗ بالامر: کو کسی امر سے واقف کرنا، باخبر کرنا اور اس کے نتائج سے ڈرانا، (آخری چار مصدر غیر قیاسی ہیں)۔تَـنَـاذَرَ القومُ: ایک دوسرے کو برائی سے ڈرانا۔تَـنَـاذَرُوا العدوَّ: دشمن سے ایک دوسرے کو خوف زدہ کرنا۔الـنَّـاذِر فا: نذر ماننے والا، کہا جاتا ہے فلانٌ نَاذِرٌ إلیَّ بعَیْنِہٖ: فلاں شخص مجھے نظر سے جکڑے ہوئے ہے، آنکھ نکالے ہوئے ہے۔الـنُّـذْرَی و النُّـذُر و النِّذَارَۃ: ڈرانا۔ النَّذِیر (مص) جمع نُذُر: اسم بمعنی انذار۔ ڈرانے والا، قاصد، رسول، بڑھاپا۔النَّذِیرَۃ جمع نَذَائِر: جنگجو فوج کی دیکھ بھال کرنے والی جماعت۔ ہراول دستہ، ڈرانا۔المُـنْذِر (فاعل): ڈرانے والا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مُـنْذِرٌ إلیَّ بعَیْنِہٖ: فلاں شخص مجھے نظر سے جکڑے ہوئے ہے۔ آنکھ نکالے ہوئے ہے۔اَبُـو المُنْذِر: مرغ۔ابنُ المُنْذِر: حیرہ کے ایک بادشاہ کی کنیت جس کا نام نعمان تھا۔المَـنَـاذِرَۃ: حیرہ کے بادشاہ۔المُنذِر (ج): [illegible]

۳نـذَرَ ـِـُ نَذْرًا ونُذُورًا ہ لِلّٰہ: اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز وقف کرنا، نذر کرنا، مخصوص کرنا۔نَذَرْتُ للّٰہ ان: میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ نذر ہ علی نفسہ: کا اپنے آپ سے عہد کرنا۔نَذِرَ ـــ نَذَرًا ب: سے چوکس، چوکنا، ہوشیار ہونا۔انْذَرَہٗ ب: کو سے متنبہ کرنا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ـــــ ہ: کو سرزنش کرنا، سمجھانا، نشیب و فراز دکھانا۔ـــــ ہ ب: کو کوئی اطلاع کرنا، کو کا نوٹس دینا، کو سے خبردار کرنا: کو کا پیشگی نوٹس دینا، کو کی پیشگی اطلاع دینا۔انذرہ بتسلیم منزلہ: کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دینا۔

نَذْر جمع نُذُور ونُذُورَات: عہد، منت، نذر۔نَذِیر جمع نُذُر: اللہ تعالیٰ کے لئے وقف، مخصوص یا نذر کیا ہوا، عہد کردہ۔ آگاہ کرنے والا، قاصد پیام رساں، خبر دینے والا، ہرکارہ، نقیب، آگے آنے والا، مستقبل کی نشاندہی کرنے والا۔ تنبیہ، انتباہ، خطرے کی اطلاع، خطرے کی گھنٹی۔نـذیر الخطر: ہوائی حملہ کی اطلاع۔إنْذَار جمع إنـذارات: انتباہ، اعلان، نوٹس، ملامت، فہمائش، شرم دلانا، ہوائی حملہ کی اطلاع۔ خطرے کی گھنٹی۔ إنْـذارٌ بـوقـوع غاراتٍ جوِّیۃ یا انذارٌ لِلْأخطارِ الـجـوِّیۃ: ہوائی حملہ کی اطلاع (AirRaid Warning)۔إنـذارٌ نِهـائـيٌّ: آخری بات (Ultimatum)۔صَفَّارَۃُ الإنْذَار: خطرے کا گھگھو (Warning Siren) خطرے کا سائرن۔نـاذِر: نذر ماننے والا، منت ماننے والا۔مَـنْذُور: عہد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے لئے وقف شدہ، نذر کیا ہوا، مخصوص کیا ہوا۔مُـنْـذِر: خبردار کرنے والا، متنبہ کرنے والا، آگاہ کرنے والا۔مُـنْـذِرَۃ: خطرہ کا سگنل، خطرہ کا الارم۔ (Alarm- signal)۔مـنذرۃ ب: کے خلاف خطرہ کی علامت۔

ندع: نَذَعَ ـَ نَذْعًا الماءُ او العَرَقُ: پانی یا پسینہ کا نکلنا۔ النُّذْعَۃ: پانی وغیرہ کا قطرہ۔

نذل: نَـذُلَ ـُ نَذَالَۃً و نُذُولَۃً: خسیس و حقیر ہونا، دین و حسب میں گرا ہوا ہونا۔ صفت نَذْل جمع نِـذَال و نُذُول ونَذِیل جمع نُذَلَاء و نِذَال

نَذْل جمع نِذَال و نُذُول: کمینہ، ذلیل، پست، بازاری، خبیث، پاجی، سفلہ، فرومایہ، نظروں سے گرا ہوا، بگڑا ہوا۔نَـذِیـل جمع نُذَلَاء ونِـذَال: ذلیل، کمینہ، پست، بازاری، خبیث، بزدل۔نَـذَالَۃ: بدچلنی، بگاڑ، فسق و فجور، سیاہ کاری۔

نرج: النَّرْبِیج او النَّرْبِیش: مہنال۔

۲النَّرْجِس و النِّرْجِیس۔ واحدہ جِسَۃ (ن): نرگس۔

۳۔النارَجیل و النارَجیل: واحد نارَجیلة: ناریل۔ النارَجیلة. حقہ۔عوام اسے نارکیلة کہتے ہیں۔

نَرد: النرْد: کھجور کے پتوں کا تھیلا جو نیچے کی جانب سے چوڑا ہوتا ہے۔تختہ نرد، چوسر کا کھیل جو دہری بساط پر کھیلا جاتا ہے، چوسر کی طرح کا کھیل، نرد بازی۔

النرْدِین و النارْدِین (ن): سنبل رومی۔

نرن النرْنج و النارَنج (ن): کڑوالیموں۔(فارسی لفظ)

○ نـــرُوج: ناروے Norway (ایک ملک کا نام) نرُویج: ناروے۔نرُویجی: ناروے کا، ناروے کا باشندہ۔

نز ا۔نزَّ ۔ نزِیزًا الظبیُ: ہرن کا دوڑنا۔نزًّا و نزِیزًا الوَترُ: تیر پھینکتے وقت تانت کا حرکت کرنا۔ ــــ فلانٌ عَنِی: (مجھ) سے دور ہونا، اکیلا ہونا۔نزّزَ فلانًا عن کذا: کو سے پاک رکھنا، دور کرنا۔النزّ و النِزّ: ایک جگہ نہ ٹکنے والا۔خوش طبع، تیز فہم۔النـــزَّة: نزّ کا اسم مرة۔ناقةٌ نزّةٌ: سبک اونٹنی۔النزّاز: فعّال مبالغہ کے لئے۔النـــزیـــز (مص): خوش طبع۔سبک، بہت متحرک۔المِنزّ: بہت حرکت کرنے والا۔نچلا نہ بیٹھنے والا۔

۲۔نـزّ ۔نزًّا و نزِیزًا و أنزّ المکانُ: بہت چشموں والی جگہ ہونا۔النِزّ جمع نزُوز: زمین سے پھوٹ کر نکلنے والا پانی۔النـــزّ جمع نزُوز: زمین سے پھوٹ کر نکلنے والا پانی، کہا جاتا ہے۔مکانٌ نزٌّ: جگہ جہاں پانی پھوٹ کر زمین سے نکلتا ہو۔ارضٌ نزّة: زمین جہاں پانی پھوٹ کر نکلتا ہو۔

۳۔نزّ ۔ نزِیزًا الظبیُ: ہرن کا آواز نکالنا۔

۴۔نـزّزت الظبیةُ ولدَھا: ہرنی کا اپنے بچے کی پرورش کرنا۔المِــنزّ: گہوارہ، کہا جاتا ہے۔الصبی فی المِنزّ: بچہ گہوارہ میں ہے۔

۵۔نـازّ مُنازّةً: کا فخر میں مقابلہ کرنا۔أنزّ الشیٔ: چیز کا سخت ہونا۔کہا جاتا ہے رجُلٌ نِـزٌّ شـرٍ: برائی کی طرف میلان رکھنے والا آدمی۔النــزّة: شدید خواہش، النِــزاز: جھگڑا، مقابلہ، دشمنی کی شدت، کہا جاتا ہے: ھو نِزازُ شرٍ: برائی سے باز نہ آنے والا ہے۔النزِیز: شہوت پرست کہا جاتا ہے۔ھو نزِیزُ شرٍّ: وہ برائی سے باز نہ آتا ہے۔

۶۔نـزنز الرجُلَ: سر کو ہلانا۔ــــ ت الامُ صَبیَّھا: ماں کا بچے کو کودانا، نچانا۔

○ نزّ ۔نزًّا و نزِیزًا: رِسنا، ٹپکنا، نکلنا، چونا، مرتعش ہونا۔نزّ رِیزٌ و نزازة جمع نزُوز: رستا، سیم، رسنے والا پانی۔نزّ: سبک، تیز، پھرتیلا، زندہ دل، شگفتہ مزاج، خوش طبع، چست، تغیر پذیر، متلون، بے ثبات، ڈانواڈول، ناپائیدار۔نزّة (حسی) جذبہ نفسانی خواہش۔نزیز: تغیر پذیر، متلون، ڈانواں ڈول، بے ثبات، ناپائیدار، بدلتا رہنے والا، حسی، پرجوش، گرم مزاج، تندخو، غصیلا۔

نزأ: ۱۔نزَأ ۔ نزْءًا و نزُوءًا بین القوم: قوم کو بھڑکانا، قوم میں فساد ڈالنا۔ــــ نزْءًا علی فلان: پر حملہ کرنا۔ــــ فلانًا علیه: کو کے برخلاف اکسانا۔ ـہٗ عن کذا: کو سے روکنا۔

۲۔نُزِئَ بکذا: کا شوقین ہونا، پر فریفتہ ہونا صفت مَنزُوءٌ بہ، رجُلٌ نزّاء: بہت شیفتہ، فریفتہ۔

۳۔النزِی: چھوٹی مشک۔

نزب: نزَب ۔ نزْبًا و نزابًا و نزِیبًا الظبی: ہرن کا آواز نکالنا۔تـنازبُوا بالالقاب: ایک دوسرے کو برے لقب دینا۔النزَب جمع نزاب: لقب۔النیزَب (ح): نر ہرن، بیل۔

نزج: نزَج ۔ نزْجًا الغلامَ: لڑکے کا ناچنا۔

نزح: نزَح ۔ نزْحًا و نزُوحًا: دور ہونا۔ــــ نزَحَت البئرُ: کنویں کا پانی بہت کم ہو جانا، یا بالکل ختم ہو جانا۔صفت۔نازح و نزُوح و نزُح: کہا جاتا ہے ماءٌ لاینزَح: نہ ختم ہونے والا پانی۔ ــــ نزْحًا و انزَح البئرَ: کنویں سے اتنا پانی نکالنا کہ بہت کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے۔القومُ: قوم کے کنوؤں کا پانی کم ہونا۔نزِح بفلان: کے وطن سے بہت دور چلا جانا۔إنتزَح عن دیارہ: اپنے وطن سے دور چلے جانا۔تنازَح: دور ہونا۔النازِح و النزُوح و النزِیح: دور۔النزَح جمع أنزاح: گدلا پانی، وہ کنواں جس کا اکثر پانی نکال لیا گیا ہو یا پانی اس میں بالکل نہ ہو۔المُنتزَح: دوری۔کہا جاتا ہے ھو بمُنتزَحٍ من کذا: وہ اس سے دوری پر ہے۔المِنزَحة جمع مَنازِح: ڈول۔قوم مَنازِیح: اپنے وطنوں سے دور گئے ہوئے لوگ۔

○ انزَح ۔نزْحًا و نزُوحًا: بہت دور ہونا، دور ہونا۔نزح من: کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ــــ عن: سے چلے جانا، رخصت ہو جانا، سے ترک وطن کر کے دوسرے دیس جا بسنا۔ــــ الی: (کسی دیس) میں آبسنا، میں اپنا وطن ترک کر کے بسنا۔ــــ ادھر ادھر پھرنا، آوارہ گردی کرنا، خانہ بدوشوں کی طرح مارا مارا پھرنا، بھٹکنا، دیس چھوڑنا، ترک وطن کرنا، بھٹکتے پھرنا۔نزح بہ: ترک وطن کر کے دوسرے دیس میں جا بسنا، وطن سے دور ہونا، پردیس میں رہنا۔ــــ نزحًا و انزَح ہ: کو خالی کرنا، کو نکالنا، کنواں، خندق، وغیرہ، کو خشک کرنا، کا پانی نکالنا۔انتـزح: ترک وطن کر کے دوسرے دیس میں جابسنا۔نزُوح: ترک وطن کر کے جانا، جابسنا۔نازِح: گھر سے یا وطن سے دور جانے والا، دوسرے ملک کی طرف جانے والا، دور افتادہ ساحلوں کی طرف جانے والا، تارک وطن، ترک وطن کرنے والا، پانی نکالنے والا، کنواں یا خندق وغیرہ خشک کرنے والا، بیت الخلا صاف کرنے والا۔

نزر: ۱۔نزَر ۔ نزْرًا ہٗ: سے سوال کرنے میں اصرار کرنا (کہا جاتا ہے فلان لایُعطی حتّی یُنزَر: فلاں شخص اس وقت تک نہیں دیتا جب تک اس سے مانگنے میں اصرار نہ کیا جائے یا مانگنے والا، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے) پر زور دینا۔فلانًا: کو حکم دینا، سے جو کچھ اس کے پاس ہے تھوڑا تھوڑا نکالنا، کو حقیر جاننا۔الشیٔ: کو کم سمجھنا۔نزُر ــــ نزْرًا و نزُورةً و نزارًا و نزارةً و نزُرةً: کم ہونا۔نزارةَ الرجُلُ: بے خیر ہونا۔ــــ ت الناقةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔نزّر و انزَر العطاءَ: عطیہ تھوڑا دینا۔تنزّر الشیٔ: کم ہونا۔ــــ من الشیٔ: سے گھٹتے گھٹتے بالکل کم رہ جانا۔النزْر: بہت کم۔رجُلٌ نزْرٌ: بے خیر شخص کہا جاتا ہے۔ماجئتَ الانزْرًا: تم بہت آہستہ آئے۔النزُرة جمع نزُور من النساء: تھوڑی اولاد یا کم دودھ والی عورت النزُور جمع نزُر: کم گو، تھوڑی چیز ــــ من النساء: تھوڑی اولاد یا کم دودھ والی عورت۔النزِیر جمع نزُر: بہت کم۔المنزُور: بہت کم، کہا جاتا ہے: أعطاہُ عطاءً منزُورًا: اس نے اسے اتنا ہی دیا جس پر اصرار کیا گیا تھا۔و ــــ عطاءٌ غیر منزور: یعنی اصرار سے زیادہ دیا۔

۲۔نزَر ــــ نزْرًا الشرابُ فلانًا: کو شراب کا مست کر دینا۔

۳۔النزَر: اونٹنی کے تھن میں ورم (سوج، سوجن)۔

○ نزْر و نزِیر: تھوڑا، کم، حقیر، غیر اہم، معمولی، ادنی، ذرا سا، قلیل، تھوڑا سا، تھوڑی مقدار، غیر اہم تعداد، نظر انداز کرنے کے لائق حصہ، نزرُ الحدیث: کم گو، کم سخن، چند لفظی، نزر قلیل: تھوڑی سی مقدار۔

نزع: نزَع ۔ نزْعًا الشیٔ من مکانِه: کو اس کی جگہ سے اکھیڑنا۔عام لوگ نـزعَ الشیٔ: سے چیز کو نظر انداز کرنے اور خراب کرنے کے معنی میں لیتے ہیں۔ ــــ الامیرُ العاملَ: کارکن کو معزول کرنا۔ ــــ بالسھم: تیر پھینکنا۔ ــــ فی القوس: کمان کھینچنا ــــ عن القوس: کمان سے پھینکنا۔ ــــ الدلوَ و بالدلو: ڈول کھینچنا یا نکالنا۔ ڈول کے ذریعے پانی نکالنا۔ ــــ یکفّ:

ہاتھ کو گریبان سے نکالنا۔ ــــ ت الشمسُ: سورج کا مغرب کی طرف جھکنا۔ ــــ المریضُ: مریض کا قریب المرگ ہونا۔ ــــ نُزُوعًا عن کذا: سے رکنا، باز رہنا۔ ــــ الولدُ أباہ و إلی ابیہ: بیٹے کا باپ کے مشابہ ہونا۔ ــــ نَزْعًا معنیً جیّدًا: اچھے معنی کا انتخاب کرنا۔ نِزاعًا إلی الشیٔ: کی طرف جانا۔ ــــ بفلان إلی کذا: کو کی طرف بلانا۔ ــــ نِزاعًا ونُزُوعًا إلی اہلہ: اپنے اہل کا مشتاق ہونا۔ نَزِعَ ــ نَزَعًا: کنپٹیوں سے گنجا ہونا صفت۔ اَنزع م نَزْعاء (یا نزعاء کے بجائے زَعراء کہا جاتا ہے)۔ نَزَّعَ الشیَٔ من مکانہ: کو اس کی جگہ سے اکھیڑنا۔ نازَعَ نِزاعًا المریضُ: مریض کا قریب المرگ ہونا۔ ــ نِزاعًا و مُنازَعَۃً إلی اہلہ: اپنے اہل کا مشتاق ہونا۔ ــ ہٗ: سے جھگڑنا۔ ــ ہٗ الثوبَ: سے کپڑا پکڑ کر کھینچنا۔ کہا جاتا ہے: ارضی تنازع ارضکم: میری زمین تمہاری زمین سے متصل ہے۔ ــ الکاسَ: پیالہ دینا۔ فلانًا: سے مصافحہ کرنا۔ اَنزَعَ الرجُلُ: گنجی کنپٹیوں والا ہونا۔ تَنَزَّعَ الیہ: کی طرف دوڑ کر جانا۔ تَنازَعَ القوم: باہم اختلاف کرنا۔ ــ القوم الشیَٔ: چیز کو اپنی اپنی طرف کھینچنا۔ ــ القومُ فی الشیء: کے بارے میں جھگڑنا۔ تنازَعُو الکاسَ: پیالہ ایک دوسرے سے لینا۔ اِنتزَعَ الشیَٔ: چیز کا اکھڑنا۔ ــ الشیَٔ: چیز کو اکھیڑنا۔ ــ سے باز رہنا، رکنا۔ ــ بالشِّعرِ او الآیۃ: شعر یا آیت کی مثال لانا۔ کوئی آیت کے عمدہ معنے پیش کرے تو کہتے ہیں: انتزع معنی جدیدا۔ اِستَنزَعَ ہٗ عن الشیٔ: سے چیز سے رک جانے کی درخواست کرنا۔ کہا جاتا ہے: رآہٗ مُکِبًّا علی الشرّ فاستنزعہ: اس نے اسے برے کام میں مشغول دیکھ کر اس سے اس سے رک جانے کے لئے کہا۔

النازِع (فا) جمع نَزَعَۃ ونُزَّع ونُزّاع م نازِعَۃ جمع نَوازِع ونازِعات: مُسافر، وطن سے دور۔ النَّزْع ونَزْعُ الحیاۃ: قریب المرگ بیماری کیفیت، حالت نزع۔ کہا جاتا ہے: لہٗ نَزْعَۃ إلی کذا: اس کا فلاں کی طرف رجحان ہے۔ النَّزَعَۃ: پہاڑی راستہ، نازع کی جمع، تیر پھینکنے والے۔ عاد السہم إلی النزعۃ: حق حقدار کو مل گیا۔ جمع نَزَعات: کنپٹیوں پر بال جھڑنے کی جگہ، یہ دو ہوتی ہیں اور انہیں نَزَعتان کہا جاتا ہے۔ النِزاع و المُنازَعَۃ: جھگڑا، بیماری کی حالت نزع۔ النُّزاعَۃ: ہاتھ سے اکھیڑ کر پھینکی ہوئی چیز۔ النَّزّاعَۃ: جھگڑالو۔ الأنزَع م نَزْعاء: کنپٹیوں سے گنجا۔ النَّزْعاء من الجِباہ: کنپٹیوں سے گنجی عورت۔

النُزُوع جمع نُزُع ونُزّاع: وطن کا مشتاق۔ بئر نَزُوع: کم گہرا کنواں۔ فلاۃ نَزُوع: دور کا صحرا۔ النَزِیع جمع نُزَّاع: وطن کا مشتاق۔ مسافر، اجنبی، دور، مکانٌ نَزِیع: دور کی جگہ (کم گہرا کنواں، شریف۔ (کہا جاتا ہے۔ فرسٌ نزیع: اچھی نسل کا گھوڑا) لونڈی کا بچہ۔ م نَزِیعَۃ جمع نَزائع اکھڑا ہوا۔ ثمرٌ نَزِیعٌ: چنا ہوا پھل۔ نُزّاع القبائل: قبیلوں کے پڑوس میں رہنے والے اجنبی لوگ۔ النَزِیعَۃ جمع نَزائع: وطن کی مشتاق (عورت)۔ ــــ من النساء: وہ عورت جس کی شادی دوسری قوم میں کی گئی ہو۔ ــــ من النجائب: دوسرے ملک میں لے جائی گئی اصیل اونٹنیاں۔ النَزائع: چوپائی ہوا۔ ــــ من الابل والخیل: مسافروں سے چھینے ہوئے اونٹ یا گھوڑے۔ المِنزَع: دور پھینکا ہوا) تیر تختی سے اکھیڑنے والا۔ المَنزَع: جمع مَنازِع: مرغوب ہدف، ارادہ۔ المِنزَعَۃ: شہد اٹھانے کی چوڑی لکڑی۔ جھگڑا۔ المَنزَع و المَنزَعَۃ: رائے، معاملہ، تدبیر، ہمت کہا جاتا ہے۔ فلانٌ بعید المنزعۃ: فلاں شخص بڑا ہمت والا ہے۔ شرابٌ طَیِّبُ المنزعۃ: لذیذ شراب۔ الولدُ المَنزُوع: بگڑے ہوئے اخلاق اور بری تربیت والا لڑکا (عام زبان میں)۔

نَزَعَ ــ نَزْعًا ہ: کو اکھیڑنا، کو زور لگا کر نکالنا، نکالنا۔ ــ ہ عن: کو سے ہٹانا، دور لیجانا، اکھاڑنا۔ کو سے قلمزن کرنا۔ ــ ہ: کپڑے اتارنا۔ ــــ عن / من ہ: کو سے محروم کرنا، کی کوئی چیز لوٹنا، کے کپڑے وغیرہ اتار لینا۔ ــــ ہ من: کو سے چھین لینا۔ ــــ ہ: کو معزول کرنا، برخاست کرنا، کا مرتبہ کم کرنا۔ ــــ ب: کو بطور ثبوت یا تردید یا تغلیط میں پیش کرنا۔ ــــ إلی: کی طرف جانا، ترک وطن کر کے کسی ملک میں جا بسنا۔ ــــ نُزُوعا إلی: کی خواہش یا تمنا ہونا، کی سخت آرزو ہونا، کا آرزو مند ہونا، متمنی ہونا، کی تمنا رکھنا، کی تمنا ظاہر کرنا، کی طرف مائل ہونا، کا رجحان رکھنا، کو اختیار کرنا، کو لینا، کا ذمہ لینا، کو اپنے سر لینا، سے رجوع کرنا۔ ــ عن: سے غیر حاضر ہونا، سے تجاوز کرنا، انحراف کرنا، سے رکنا، باز رہنا، سے بچنا، کو چھوڑ دینا، سے الگ رہنا، پرہیز کرنا۔ ــــ حالت نزع میں ہونا، نزع منہ نازع إلی: کی خواہش محسوس کرنا، کی طرف رجحان معلوم کرنا یا دریافت کرنا۔ نَزَّعَ ہ: کو دور کرنا، لیجانا۔ نازَعَ ہ: سے لڑنا، جھگڑنا، جھگڑا کرنا، کا مقابلہ کرنا، سے مسابقت کی سعی کرنا۔ ــــ ہ: سے لڑنا، بھڑنا، کا مقابلہ کرنا۔ ــــ فی: کی سعی کرنا، کی جدوجہد کرنا، کو لڑنا، کا ثبوت

چاہنا، پر اعتراض کرنا۔ ــ ہ ہ: سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرنا، پر کسی کے حق کے خلاف دلیل لانا یا پیش کرنا۔ ــــ نزع کی حالت میں ہونا۔ تنازع: ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، مسابقت کی سعی کرنا۔ ــ ہ: کے لئے حریف ہونا، رقیب ہونا، پر ایک دوسرے کے حق کے خلاف دلیل لانا یا پیش کرنا، پر جھگڑا جاری رکھنا، پر مختلف الرائے ہونا، اختلاف کرنا۔ اِنتزَعَ ہ من: سے کو اکھیڑنا، سے کو نکالنا، سے کچھ پھاڑنا، چیرنا۔ ــ من ہ: سے کوئی چیز چھیننا، سے کوئی چیز اکھیڑنا، پھاڑنا۔ ــ ہ: کو لینا، لے جانا، کھینچنا، ادھار لینا، عاریۃً لینا۔ نَزْع: ہٹانا، پیچھے ہٹنا، نکال دینا، اخراج، معزولی، عہدہ سے برخاستگی، موت کی کشمکش، موت کی اذیت، نزع السلاح: تخفیف اسلحہ، نہتہ کرنا۔ مؤتمر نزع السلاح: تخفیف اسلحہ کی کانفرنس۔ نزع الملکیۃ: بے دخلی، جائیداد غصب کرنا۔ نَزْعَۃ جمع نَزَعات: رجحان، رغبت، میلان، وضع، رویہ، انداز نظر، نقطۂ نگاہ، موقف، اپوزیشن۔ نُزُوع إلی: کے لئے کوشش، جانفشانی، دوڑ دھوپ، جدوجہد، چاہ، تمنا، آرزو، اشتیاق، کی طرف رجحان، جھکاؤ، میلان طبع۔ نِزاع إلی: کی طرف جھکاؤ، کا رجحان، کی طرف میلان طبع رکھنے والا۔ نَزِیع جمع نُزّاع: غیر ملکی، پردیسی، اجنبی، نوارد۔ مَنزَع جمع مَنازِع: نیت، مراد، غرض، مطلب، عزم، مقصد، منشا، قصد، ارادہ، دھیان، اشتیاق، مدعا، مطمح نظر، طریقہ، راستہ، طرز، ڈھنگ، انداز، طور طریقہ، لچھن، چال چلن، مِنزَع: تیر۔ نِزاع: لڑائی، جدوجہد، نزاع، جھگڑا، مقابلہ، مناقشہ، قضیہ، بحث، موت کی کشمکش، موت کی اذیت۔ بِلانِزاع: مسلمہ طور پر، حتمی طور پر، یقینی طور پر، ناقابل تردید طور پر، بے شک، بلاشبہ، یقینا، ناقابل انکار طور پر۔ علیہ نِزاع: قابل بحث، مابہ النزاع، متنازع، لانِزاعَ فیہ: جس میں مخالفت نہ، جس کی تردید نہ کی گئی ہو، مانا ہوا، آشکارا۔ مُنازَعَۃ جمع مُنازَعات: لڑائی، جدوجہد، جھگڑا، فساد، تنازعہ، بحث، مناقشہ، تکرار، نزاع، ان بن، نااتفاقی، ناچاقی، اختلاف، نزاعی معاملہ، امر متنازع (عدالت میں) اصل معاملہ جس پر اختلاف ہو (Case at issue)۔ نازِعَۃ جمع نَوازِع: رجحان، میلان، جھکاؤ۔ مَنزُوع: ہٹایا ہو، دور کیا ہوا۔ منطقۃ منزوعۃ السلاح: علاقہ جہاں سے فوج نکال لی گئی ہو۔ مُنازِع: موت کے ساتھ جدوجہد کرنے والا، حالت نزع میں، مقابلہ کرنے والا، جدوجہد کرنے والا، لڑنے والا، جنگجو، جھگڑالو،

مخاصم، مقدمہ باز۔ لَیْسَ مِنْ مُنَازِعٍ فی: کوئی انکار نہیں کرے گا کہ...... مُنَازَعٌ علیہ: قابل بحث متنازعہ۔ مُتَنَازِع: باہم دگر آویزاں، متصادم۔ مُتَنَازَعٌ علیہ و مُتَنَازَعٌ فیہ: متنازعہ، قابل بحث، متنازعہ فیہ معاملہ۔ مُنْتَزَعٌ مِن: سے لیا ہوا، نکالا ہوا۔

ـ رغ: نَزَغَ ـَ نَزْغًا ہٗ: کو ہاتھ سے ٹھونکا لگانا یا نیزہ مارنا، کو خفیف سی حرکت دینا، پر عیب لگانا۔ ــــ ہٗ بکلمۃٍ: کو طعن و تشنیع کرنا۔ ــــ بین القوم: لوگوں میں فساد ڈالنا، کہا جاتا ہے۔ نَزَغَ الشیطانُ بینھم: شیطان نے انہیں ایک دوسرے کے برخلاف اکسایا۔ نَزَغَہٗ الشیطانُ إلی المعاصی: شیطان نے اسے گناہوں پر اکسایا۔ النازغۃ جمع نَوَازِغ: نَازِغ کا مونث۔ النَّوَازِغ: فساد ڈالنے والیاں۔ النَّزْغ (مص). اکسانے والا کلام۔ نَزْغُ الشیطان: شیطانی وسوسے، گناہوں پر مجبور کرنے والے ہتھکنڈے۔ النَّزْغَۃ جمع نَزَغَات: نزغ کا اسم مرۃ، طعن و تشنیع۔ النَّزَّاغ و المِنْزَغ و المِنْزَغَۃ: غیبت کرنے والا، فساد ڈالنے والا۔ النَّزِیغۃ: برا کلمہ۔

ے نَزْغٌ و نَزْغَۃٌ جمع نَزَغَات: گناہوں کی ترغیب۔ نَزْغ الشیطان: شیطان کے وسوسے۔ شیطانی القاء والہامات

نزف: نَزَفَ ـِ نَزْفًا ماءَ البئر: کنویں کا سارا پانی نکال دینا۔ ــــ ت البئرُ: کنویں کا سارا پانی نکالا جانا۔ ــــ دمَ فلانٍ: کا خون پچھنوں یا فصد سے نکالنا۔ ــــ عبرتَہٗ: کے آنسو ختم کر دینا۔ ــــ الدمُ فلانًا: زیادہ خون نکلنے سے کمزور ہو جانا۔

نَزِفَ ـَ نَزَفَات عبرتُہٗ: کے آنسو خشک ہونا۔ نُزِفَ ماءُ البئرِ: کنویں کا سارا پانی نکالا جانا۔ الرجلُ: بے عقل ہونا یا بدمست ہونا۔ الرجلُ دمًا: نکسیر پھوٹنے سے سارا خون نکل جانا۔ ــــ فی الخصومۃ: جھگڑے میں کی حجت ختم ہونا۔ أَنْزَفَ البئرَ: کنویں کا سارا پانی نکال دینا۔ ــــ الرجلُ: کے لئے کچھ نہ بچنا، مست ہو جانا، کی عقل جاتی رہنا، کی جھگڑے میں حجت ختم ہو جانا۔ ــــ العبرات: آنسو روک دینا، ختم کر دینا۔ ــــ ت البئرُ: کنویں کا سارا پانی نکالا جانا۔ اِسْتَنْزَفَ الدمعَ او الماءَ: آنسو یا پانی خشک کرنا یا نکال لینا۔ النازِف جمع نُزَّف: فاعل۔ عِرْقٌ نَازِفٌ: رگ جس سے خون نہ بہتا ہو۔ النَّزْف (مص)، نزفُ الدم: خون کا بہنا۔ النُّزْف: کنویں کا پانی نکالنا، بہت سا خون نکلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری۔ النُّزْفَۃ جمع نُزَف: تھوڑا سا پانی وغیرہ۔ نَزَافِ: اسم فعل بمعنی امر کہا جاتا ہے نَزَافِ نَزَافِ ماءَ البئر: کنویں کا سارا پانی نکال دے۔ النَّزُوف: کنواں جس کا سارا پانی ہاتھ سے نکال دیا گیا ہو۔ النَّزِیف: بافراط خون نکل جانے کی وجہ سے کمزور، پیاس سے خشک رگوں اور زبان والا، بدمست، بخار میں مبتلا۔ بئرٌ نزیف: تھوڑے پانی والا کنواں۔ المِنْزَفَۃ: جس سے پانی نکالا جائے۔ المَنْزُوف: زیادہ خون نکلنے سے کمزور، پیاس سے خشک رگوں اور زبان والا، بے عقل۔

ے نَزَفَ ـِ نَزْفًا ہٗ: کو خشک کرنا، خالی کر دینا، کو کھینچ لینا، کل خرچ کر ڈالنا، کمزور کرنا۔ ہٗ: کنواں خشک کرنا، خون نکال دینا۔ ــــ: خشک ہونا، خالی ہونا، خرچ ہونا۔ نُزِفَ دمُہٗ: کا بہت خون ضائع ہو جانا، کا خون نکلنا، خون نکلنے سے مر جانا۔ أَنْزَفَ ہٗ: کنویں کا پانی نکالنا، کو خالی کرنا۔ ــــ: خالی ہونا، خرچ ہو جانا، کمزور ہونا۔ اِسْتَنْزَفَ ہٗ مِن: کو سے خالی کرنا، کھینچ لینا، لینا۔ ــــ ہٗ: کو خالی کرنا، خرچ کرنا، ختم کرنا، نگلنا، ہڑپ کر جانا، کھا جانا، سارا استعمال کر لینا۔ نَزْف خالی کرنا، سخت تھکاوٹ، خون کا بہنا، جریان خون، خون کا ضائع جانا۔ النزف الدموی: جریان خون۔ نُزْفَۃ: تھوڑی مقدار (سیال شے کی) قلیل مقدار۔ نَزِیف: خون ضائع ہونے کی وجہ سے، کمزور، خون نکلنا، بہنا جریان خون۔ مَنْزُوف: خون ضائع ہونے کی وجہ سے کمزور۔

نزق: ۱۔ نَزَقَ ـِ نَزْقًا و نُزُوقًا الفرسُ: گھوڑے کا کودا اور اچھل کر تیزی سے آگے بڑھنا۔ نَزِقَ ـَ نَزَقًا و نُزُوقًا الفرسُ: گھوڑے کا کودا اور اچھل کر تیزی سے آگے بڑھنا۔ ــــ نَزَقًا و نُزُوقًا الرجلُ: غصہ سے طیش میں آنا اور خفیف العقل ہونا۔ صفت نَزِق م نَزِقَۃ۔ نَزَّقَ الفرسَ: گھوڑے کو مار کر کدانا۔ نَازَقَ نِزَاقًا و مُنَازَقَۃً ہٗ: کے قریب ہونا، کو گالی دینا۔ أَنْزَقَ الفرسَ: گھوڑے کو مار کر کدانا۔ ــــ فلانٌ: کم عقل ہو جانا۔ ــــ النعیمُ فلانًا: کو نیکی ہونے پر اکسانا۔ ــــ الرجلُ فی الضحک: بہت ہنسنا۔ تَنَازَقَا: ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔ النَّزْق (مص): پھرتی، حماقت اور جہالت سے جلد بازی۔ مکانٌ نَزَق: نزدیک جگہ۔ النَّزْقَۃ: اسم مرۃ، دوڑ کا آغاز۔ النَّزِقَۃ و النَّزَاق مِن النوق: سرکش اونٹنی۔ المُنَازِق: باتونی۔

۲۔ نَزَقَ ـِ نَزْقًا الإناءَ: برتن کو لبالب بھرنا۔ نَزِقَ ـَ نَزَقًا الإناءُ: برتن کا لبالب بھرنا۔

۳۔ النَّیْزَق جمع نَیَازِق: چھوٹا نیزہ۔

ے نَزَقَ ـِ نَزْقًا و نَزِقَ ـَ نَزَقًا و نُزُوقًا: زور سے آگے بڑھنا، آگے بڑھنا، دوڑ پڑنا، ٹوٹ پڑنا، جلد بازی کرنا، سخت عجلت میں ہونا، تیز و تند ہونا، پرجوش ہونا، جلد بازی کرنا، سخت عجلت میں ہونا، تیز و تند ہونا، پرجوش ہونا، خالی دماغ، باولا یا سنکی ہونا، سبک ہونا اوچھا ہونا، بے احتیاط ہونا، ناعاقبت اندیش ہونا، سنگدل ہونا، بے رحم ہونا۔ نَزَّقَ ہٗ: گھوڑے کو مہمیز کرنا، تیز دوڑانا، آگے بڑھانا۔ نَزَق: جلدی، پھرتی، تیزی، عجلت، جلد بازی، تہور، شتابی، ناعاقبت اندیشی، جوش، شدت، سختی، بے عقلی، من چلاپن، بے احتیاطی، لاپرواہی، بے فکری، بے مروتی، ہلکا پن، سنکی، اوچھا پن۔ نَزِق: پھرتیلا، جلد باز، تیز، ناعاقبت اندیش، تند خو، تیز مزاج، زود رنج، چڑچڑا، غیر محتاط، بے دھڑک سر کے بل، سخت، عجلت میں، بے سمجھے بوجھے، تند، شدید، سخت، گرم، پرجوش، آندھی کی طرح کام کرنے والا، بے فکر، بے پروا، بے احتیاط، غافل، لاپروا، سہل انگار، توجہ نہ کرنے والا، خالی دماغ، باولا، سنکی، بے فکرا، خفیف، ہلکا، غیر سنجیدہ، بے نتیجہ باتیں کرنے والا، وحشی، کم عقل، وہمی، بے وقوف، سطحی، بہت معمولی بیہودہ۔

نزک: نَزَکَ ـُ نَزْکًا ہٗ: کو نیزہ مارنا، کو برا کہنا، پر عیب لگانا، ناحق الزام لگانا۔ النَّزَّاک و النُّزَک: عیب لگانے والا، النَّزِیکات: شریر لوگ۔ النَّیْزَک جمع نَیَازِک: چھوٹا نیزہ۔ ــــ جمع نَیَازِک (فلک): ٹوٹنے والا ستارہ، شہاب ثاقب

نزل: نَزَلَ ـِ نُزُولًا من علوٍ إلی اسفل: اوپر سے نیچے اترنا۔ ــــ فلانٌ عن الحق: اپنا حق چھوڑ دینا۔ ــــ بہ: کو اتارنا۔ ــــ بہ الامرُ: پر واقع ہونا، آپڑنا۔ ــــ نِزَالَۃً: سفر کرنا۔ کہا جاتا ہے: مازلتُ انزل: میں سفر کر رہا ہوں۔

ــــ نُزُولًا و مَنْزَلًا و مَنْزِلًا القومَ و بالقومِ و علی القومِ: کے ہاں مہمان اترنا۔ نَزِلَ ـَ نَزَلًا المکانُ: جگہ کا سختی کی وجہ سے تھوڑی سی بارش سے بہنے لگنا۔ ــــ الزرعُ: کھیتی کا بڑھنا۔ ــــ نَزَالَۃً الرجلُ: کوڑ کام ہونا۔ نَزَّلَ الشیءَ مکانَ الشیءِ: کو کی جگہ رکھنا، کو کا قائم مقام کرنا۔ ــــ القومَ: لوگوں کو منازل میں اتارنا۔ ــــ ہٗ: کو اتارنا۔ ــــ اللّٰہُ کلامَہٗ علی انبیائہ: اللہ کا اپنے نبیوں کو اپنے کلام کی وحی کرنا یا نازل کرنا۔ ــــ الشیءَ: کو مرتب کرنا۔ الحاسبُ الرقمَ: رقم لکھنا۔ نَازَلَ نِزَالًا و مُنَازَلَۃً ہٗ فی الحرب: کے مقابلہ میں جنگ کے دوران اترنا اور اس سے لڑنا۔ کہا جاتا ہے تحاربوا بالنزال: دونوں فریق اپنے اونٹوں سے گھوڑوں پر اتر کر آپس میں لڑے۔ أَنْزَلَ إِنْزَالًا و مُنْزَلًا الضیفَ: کو مہمان اتارنا۔ ــــ الشیءَ: کو

اتارنا۔ ـــ اللّٰہُ الکلامَ: اللہ کا وحی کرنا، کہا جاتا ہے:
انزل حاجتہ علی کریم: اس نے فیاض سے
حاجت روائی کی درخواست کی۔ تَنَزَّلَ ٹھہر ٹھہر کر
اترنا۔ ـ عن الحق: حق چھوڑنا۔ ـ فلاناً: کو اتارنا۔
تَنَازَلَ القومُ: اونٹوں سے اتر کر گھوڑ پر سوار ہونا اور
لڑنا۔ میدان جنگ میں اتر کر معروف پیکار ہونا۔ ـــ
القومُ فی السفر: کبھی اس کے پاس کھانا کبھی اس
کے پاس۔ ـــ الرجلُ: اپنی حیثیت سے گر جانا،
روادارانہ ہونا۔ اِسْتَنْزَلَ ہٗ: کو اتارنا، سے اترنے کو
کہنا۔ ـ ہٗ عن رایہ او حقہ: کو اپنی رائے یا حق سے
نیچے اترنے کیلئے کہنا۔ اُسْتُنْزِلَ فلانٌ: مرتبہ سے اتارا
جانا۔ النَّازِلَۃ جمع نَازِلات و نَوَازِل: نازل کا مونث:
سخت مصیبت۔ النِّزْل (طب) زکام، کھانسی، اور
بخار (عام زبان میں)۔ ـــ جمع نُزُوْل: جمع شدہ۔
النُّزُل جمع اَنْزَال مہمان کا کھانا۔ ـــ والنَّزَل جمع
اَنْزَال فصل کی نمو کھیتی کی بالیدگی، داودہش اور فضل۔
النُّزُلُ: منزل، مہمان لوگ، برکت والا کھانا۔ ـــ جمع
اَنْزَال: مہمان کا کھانا۔ النزل: وہ مکان یا جگہ اکثر و
بیشتر لوگ اتریں، سخت جگہ جہاں سیلاب آ جائے۔
مکانٌ نَزِل: جگہ جہاں اکثر و بیشتر اترا جائے۔ النَّزَل
جمع اَنْزَال: بارش۔ رجلٌ ذو نَزَلٍ: بہت بخشش، فضل
اور برکت والا۔ اَنْزَالُ القومِ: قوم کی روزیاں۔
النَّزْلَۃ جمع نَزَلَات: نزول کا اسم مرۃ۔ لقد راٰہُ نَزْلَۃً
اُخریٰ: اس نے اسے دوسری بار بھی دیکھا۔ ـــ
(طب): زکام، نزلہ۔ ارضٌ نَزِلَۃٌ: اچھی کھیتی کی زمین
کہا جاتا ہے: ترکتُھم علی نَزِلاتِھم ونَزَلاتِھم:
میں نے انہیں اچھی حالت میں چھوڑا۔ النِّزَالَۃ: سفر،
مہمانی، کہا جاتا ہے: کنا فی نِزَالَۃِ فلان: ہم فلاں
کی مہمانی میں تھے۔ فلان من نزالۃِ سُوْءٍ: فلاں کا
باپ کنجوس ہے۔ النُّزَالَۃ: جگہ کا تھوڑی سی بارش سے
تختی کی وجہ سے بہہ پڑنا۔ النَّزَّال: بہت اترنے والا،
بہت مقابلہ کرنے والا۔ النَّزِیل جمع نُزَلاء: مہمان
(کہا جاتا ہے: فلانٌ نَزِیلِی: فلاں شخص میرے
ساتھ گھر میں مہمان ہے) برکت والا کھانا۔ کہا جاتا
ہے، ثوبٌ نَزِیلٌ: مکمل کپڑا۔ التَّنْزِیل: ترتیب، اوپر
سے نیچے اترنا۔ المَنْزِل جمع مَنَازِل: اترنے کی جگہ،
گھر، چشمہ۔ المَنْزِلَۃ جمع مَنَازِل: اترنے کی جگہ،
گھر، رتبہ، کہا جاتا ہے: لہ منزلۃ عند الامیر: وہ
امیر کے ہاں مرتبہ والا ہے۔ رفیعُ المَنْزِلَۃ: بلند
مرتبہ شخص۔ المُنَزَّلَۃ (ط): گوشت اور بینگن سے تیار
کیا ہوا سالن۔ المنزول: مہمانوں کے لئے تیار کی
ہوئی جگہ، مہمان خانہ۔

○ نَزَلَ من ہ: ٹرین سے اترنا، کار سے اترنا، جہاز سے
اترنا۔ ـ: ہوائی جہاز کا اترنا، بارش کا برسنا، آسمان سے
اترنا، خصوصاً قرآن مجید کی وحی ہونا۔ قیمتوں کا گرنا،
پانی کی سطح گرنا، کم ہونا، دریا وغیرہ کا اتر جانا، رکنا آرام
کے لئے، پڑاؤ ڈالنا، خیمہ زن ہونا۔ ـــ ب / علی /
عند: کے ہاں قیام کرنا۔ ـــ ہ: کسی جگہ رہنا، سکونت
کرنا، بود و باش کرنا۔ ـــ: اکھاڑے، دنگل، میدان
جنگ یا میدان عمل میں اترنا، قدم رکھنا، لڑائی شروع
کرنا، مخالفت فریق کے سامنے آنا، سے مڈ بھیڑ ہونا،
مقابلہ کرنا۔ ـــ عن ل: کے حق میں سے دست بردار
ہونا۔ ـــ عن: کو چھوڑنا، ترک کرنا، سے استعفیٰ دے
دینا، سے باز رہنا، پرہیز کرنا۔ ـــ ب: پر نازل ہونا،
پڑنا، ٹوٹ پڑنا، چڑھ دوڑنا (مصیبت، سزا وغیرہ کا) کو
ایذا دینا، دکھ پہنچانا، تکلیف میں ڈالنا، کو پیش آنا۔ ـــ
علی: پر حملہ کرنا، کا آغاز کرنا، پر جھپٹا مارنا۔ ـــ ب
الی: کو کسی جگہ لیجانا۔ نَزِلَ ـ نَزْلَۃً: زکام ہونا۔
نزل الی البَرّ: زمین پر اترنا، ساحل پر اترنا، نزل الی
المیدان: لڑائی شروع کرنا۔ نزل دون منزلتہ: سطح
سے گر جانا، نزل ضیفاً علی: کی مہمان نوازی سے
فائدہ اٹھانا، کے ہاں بطور مہمان مقیم ہونا۔ نزل علی
حکمہ: کی بات مان لینا، کی خواہش کے آگے جھک
جانا، کی اطاعت اختیار کرنا، کی فرمانبرداری کرنا، کے
حسب معیار کام کرنا۔ نزل عند ارادتہ: کی مرضی منشا
یا ارادہ کا پاس یا لحاظ کرنا یا اسے تسلیم کرنا، کے حکم کی تعمیل
کرنا۔ نزل عند رغبتہ (یا طلبہ) کی خواہش یا
مطالبہ کو پورا کرنا، کی حسب خواہش کام کرنا، کے مطالبہ
پر عمل کرنا۔ نزل مَنْزِلاً: جگہ یا پوزیشن پر فائز ہونا، جگہ
یا پوزیشن تک پہنچنا۔ نزل منزلہ اللائق: اپنی جائز
جگہ پر فائز ہونا، قابض ہونا۔ نزل منزلۃ فلان: کی
پوزیشن پر لگا رہنا، کی حیثیت سے کام کرنا۔ نَزَّلَ:
اتارنا۔ ہٗ: کو اتارنا۔ ہ: کو نیچے کرنا، گرانا۔ ـــ ہ
علی: پیغمبر پر وحی کرنا۔ ـــ ہ: کا انکشاف کرنا، کی وحی
بھیجنا، کا الہام کرنا، کو اتارنا، کو نیچے رکھنا۔ ـــ ہ / من: کو
گرانا، کم کرنا حد سے زیادہ کم کر دینا، بہت کم کر کے
دکھانا، میں تخفیف کرنا، کو چھوٹا کرنا، کو گھٹانا۔ ـــ ہ: کو
جھکانا، ٹیڑھا کرنا، کو ڈوبا دینا، (جھنڈا) نیچا کرنا،
اتارنا۔ ـــ ہٗ عن: کو سے سبکدوش کرنا، برخاست کرنا
الگ کر دینا، موقوف کرنا۔ ـــ ہٗ عن العرش: کو تخت
سے اتارنا، معزول کرنا۔ ـــ ہٗ: کی میزبانی کرنا، کو
ٹھہرانا، کے قیام کا انتظام کرنا۔ ـــ ہ من: کو سے مجرا
کرنا، کم کرنا، کو سے تفریق کرنا، منفی کرنا۔ ـــ ہ فی: کو
میں ڈالنا، داخل کرنا، جڑاؤ کام کرنا، کی میں منبت کاری
کرنا، پچی کاری کرنا (جیسے ہاتھی دانت کی، لکڑی میں)
نَزَّلَ دَرَجَتَہٗ: کا منصب گھٹانا، کی تنزلی کرنا۔ نَازَلَ ہٗ:
کے ساتھ معروف پیکار ہونا، سے کسی مسئلہ پر بحث
کرنا، سے متصادم ہونا۔ اَنْزَلَ: اتارنا۔ ـــ ہ علی:
اللہ کا کسی چیز کو پر نازل کرنا، پر کسی چیز کی وحی کرنا۔ ـــ
ہ: اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز عطا کرنا، دینا۔ ـ ہٗ ہ: کو میں
اتارنا، ٹھہرانا، رکھنا، رہائش دینا۔ ـــ ہ: (مال) اتارنا۔
ـــ ہ الی البر: کو جہاز سے ساحل پر لیجانا۔ ـــ ہ:
فوجیں زمین پر اتارنا، ساحل پر رکھنا، جہاز سے اتارنا۔
ـــ ہ: جھنڈا اتارنا۔ ـــ ہ الی: تعداد، قیمت وغیرہ،
...... تک کم کرنا۔ ـــ ب ہ: کو کا نقصان پہنچانا۔ ـــ ہ
علی: کو پر مجبور کرنا۔ ماانزل اللّٰہ بہ من سلطان:
اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اختیار اور قوت نہیں دی
(مرادی معنی): بے کار، فضول، ناکارہ، بے اثر، بے
نتیجہ، لاحاصل، بے ثمر، بے فائدہ، بے بنیاد، لغو، بے
سروپا، نامعقول، بعید از قیاس، بے تکا، لچر، الٹی گنگا،
مکمل طور پر من مانا، انگل پچو۔ انزل ہ الی البحر:
جہاز کو پہلی مرتبہ پانی میں اتارنا۔ اَنْزَلُوھم ضیوفاً
علیھم: انہوں نے انہیں مہمان بنایا۔ اَنْزَلَ بہ
خسارۃً فادحۃ: کو بھاری نقصان پہنچانا۔ انزل ہ
منزلۃ فلان: کو کی حیثیت میں فائز کرنا، کو کا مرتبہ
دینا، کو کے برابر منصب دینا، تَنَزَّلَ الی: تک کم ہونا،
تک جھکنا، فروتنی کرنا۔ ـــ: اپنے آپ کو ذلیل کرنا،
خاکساری کرنا، اپنے آپ کو خوار کرنا۔ ـــ عن: کو چھوڑ
دینا، ترک کر دینا، سے باز رہنا۔ تَنَازَلَ عن ل: سے
کے حق میں دستبردار ہونا ـــ عن: سے بے نیاز رہنا، کو
چھوڑ دینا۔ ـــ عن ل: کو کے حوالے کر دینا، کو پر چھوڑ
دینا، کو کوئی چیز منتقل کرنا۔ ـــ: اپنے آپ کو ذلیل کرنا،
خاکساری کرنا، فروتنی کرنا تنازل (یا تنزل) عن
العرش ل: تخت سے کے حق میں دستبردار ہونا۔ تنازل
عن منصب: منصب سے مستعفی ہونا اِسْتَنْزَلَ ہٗ: کو
اترنے کے لئے کہنا۔ ـــ ہ: کی التجا کرنا۔ ـــ ہٗ: کو
اتارنا۔ ـــ ہٗ عن: سے کو چھوڑنے کی اپیل کرنا، کو سے
دستکش ہونے کی اپیل کرنا۔ ـــ ہٗ: محصور کو ہتھیار ڈالنے
پر مجبور کرنا۔ ـــ ہ من: کو سے منہا کرنا، تفریق کرنا۔
نُزُل جمع نُزُوْل و نُزُل: شب باشی کی جگہ، ہوٹل،
سرائے جمع نُزُوْل۔ بدوؤں کی چھوٹی قبائلی وحدت،
(خانہ بدوشوں) کا پڑاؤ، ڈیرہ۔ نُزُل: مہمان کو دیا
جانے والا کھانا۔ نَزْلَۃ: رہنا، رکنا، ٹھہرنا، قیام، آمد۔

نَزلةُ الحج: مکہ معظمہ سے محمل کی واپسی کا جشن۔ نَزلة: زکام۔ نزلةٌ شعبية: قصبی زکام۔ نزلة صَدرية: ورم زخرہ۔ نزلة وَافِدة: انفلوئنزا (Influenza) نزالة: نوآبادی۔ نُزُولاً علی: کے مطابق کے پاس ادب سے۔ نزولا عند رغبته: اس کی خواہش کی تکمیل میں، اس کی خواہش کے لحاظ میں، اس کی درخواست پر۔ نزولا عند طلبه: اس کے مطالبہ کی تعمیل میں، اس کی درخواست کے مطابق، نزول المطر بارش۔ نُزُولِی (قیمتوں اور ستاروں) کے گرنے کے متعلق یا سے متعلقہ۔ اثر باز گشت کا، گرتی ہوئی، ڈوبتی ہوئی نزیل جمع نُزلاء: مہمان اجنبی، پردیسی، شب باش، منزل گزین، خرچ دے کر کھانا کھانے والا مقیم، داخل، قابض، کرایہ دار، منزل الاستراحة: ریسٹ ہاؤس (Rest House) منازل اللهو واللعب: تفریحی مراکز۔ اهلُ المنزل: اہل خانہ، بیوی بچے، صاحب المنزل: مالک مکان۔ منزلی: گھریلو، خانگی، پرائیویٹ (نجی)۔ مَنزِلة: ڈگری، گریڈ، منصب، پوزیشن، درجہ، رتبہ، مرتبہ، حیثیت (Status) عظمت، قدرومنزلت۔ تَنزِیل الرُّتبة یا تنزیلُ المَقام: تنزّلی Demotion، تنزیل نقدی: نظام زر میں قیمت کی کمی، روپے کی قیمت میں کمی، سکہ رائج الوقت کی قیمت کی کمی (Currency devaulation) نِزَال و مُنازَلة: جنگ کے لئے فوجوں کی صف بندی، لڑائی، جنگ و جدل، معرکہ کارزار، محاربہ۔ انزال الی البحر: بحری جہاز کو سمندر میں اتارنا۔ انزال الی العمل: بحری جہاز کی سفر کیلئے تیاری۔ عدم التنازل: بے رحمی، سنگدلی، سیاست میں کٹرپن یا انتہا پسندی یا غیر مصالحانہ رویہ۔ عقد التنازل: علاقہ یا حقوق دوسرے کے حوالے کرنے کی دستاویز (deed of cession) نازل: رہنے والا مقیم۔ نازلة جمع نوازل: وقوع، واقعہ، افسوسناک حادثہ، سانحہ، واردات، مصیبت، شکست، قسمت کا گھونسا یا وار، آفت پڑنا، (عدالتی) مقدمہ، قانونی کارروائی۔ نازلةُ مدنية: سول ایکشن اوراق نازلة: مقدمہ کی دستاویزات۔ قِسمُ النوازِل: (عدالت کے) متنازع فیہ امور کے لئے شعبہ۔ قام بنازلة: قانونی کارروائی کرنا، مقدمہ شروع کرنا۔ مَنزُول: ایک قسم کی بیہوش کرنے والی دوا یا نشے کی چیز۔ مُنزَّل: مرصع، پچی کاری کیا ہوا، منبت کاری کیا ہوا۔

نزه: نَزَهَ ـــ نزهًا الابلَ: اونٹوں کو پانی سے دور رکھنا، ہٹانا۔ نَزِهَ ـ ونَزُهَ ـ نَزاهَةً و نزاهِيَةً: برائی سے پاک ہونا، پاکدامن ہونا۔ ـ المکانُ: جگہ کا صحت افزا ہونا۔ نَزَّهَهُ: کو بری بات سے دور رکھنا، ہٹانا۔ ـ نفسَهُ عن القبیح: اپنے آپ کو برائی سے پاک رکھنا۔ ـــ اللّهَ عن السوء: اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیس وپاکی بیان کرنا۔ تَنَزَّهَ عن کذا: سے دور اور محفوظ ہونا کہا جاتا ہے: یَتَنَزَّهُ عن المطامع و عن ملائم الاخلاق: وہ مذموم اخلاق وخواہشات کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ـ فلانٌ: ہواخوری کرنا۔ اِستَنزَهَ عن کذا: سے دور ہونا۔ فلانٌ: سیر و تفریح یا ہواخوری کا خواہاں ہونا۔ النازِه: فا کہا جاتا ہے: هو نازِهُ النفس: وہ پاکدامن ہے۔ النَزِهُ والنَزِه والنَزِیه جمع نُزهاء و اَنزَاه ونِزاه: پاکدامن، برائیوں سے دور مکان نَزِه ونَزِه ونَزِیه: لوگوں سے دور جگہ صحت افزا اور عمدہ آب وہوا کا مقام۔ النَزَه والنزاهة: برائی سے دوری النُزهة جمع نُزَه: سیر و تفریح۔ کہا جاتا ہے: هو بنُزهة من الماء او عن الماء: وہ پانی سے دور ہے۔ المُتنَزَّه: تفریح گاہ، سیر و تفریح کی جگہ، ہواخوری کی جگہ۔

○ نزنز: بچہ کو ہلانا جلانا، جھولا جھلانا، گود میں اچھالنا۔

○ نزه ـ نُزاهةً عن: سے دور ہونا، پاک ہونا، آزاد ہونا، بچنا، دور رہنا، باز رہنا۔ نَزُهَ ـ نَزاهَةً: محترم ہونا، قابل عزت ہونا، آبرومند ہونا، باعزت ہونا، مہذب و شائستہ ہونا، مناسب ومعقول ہونا۔

نَزَّهَهُ عن: کو سے بالا سمجھنا یا قرار دینا۔ تَنَزَّه بمعنی نزِه نیز تنزّه عن: سے بہت بلند ہونا۔ تنزّہ: سیر کیلئے جانا، چہل قدمی کرنا، سیر کرنا، ہواخوری کرنا، ٹہلنا، باہر جانا، جی بہلانا، مزے کرنا، اچھا وقت گزارنا۔ نَزَه ونَزاهَةٌ: پاکیزگی، بے گناہی، بے قصوری، دیانت، دیانت داری، نیکی، ایمانداری، غیرتمندی، غیر جانبداری، نَزِه و نَزِیه جمع نُزهاء ونِزاه: پاک، پارسا، نیک، پرہیزگار، عفیف، پاکدامن، بے گناہ، بے قصور، ملامت سے بالا، پاکدامن، ریکارڈ کا حامل، مہذب شائستہ، باعزت، آبرومند، قابل عزت، دیانت دار، نیک، خداترس، انصاف پرور، متدین، صحیح، غیر جانبدار۔ نُزهَة جمع نُزَه ونزهات: سیر، چہل قدمی، ہواخوری۔ سیرگاہ، گشت گاہ، تفریحی سواری یا سفر۔ تفریح، تفریح گاہ، پکنک کا میدان، قابل دید مقام، سیاحوں کو کشش کرنے والی چیز۔ مَنزَهَة جمع مَنازِه: تفریح گاہ، پارک، باغ۔ مُتنزِّه جمع مُتنزِّهُون: سیر کرنے والا، چہل قدمی کرنے والا، ہوا خوری کرنے والا، تفریح کرنے والا۔ مُتنزَّه: سیر گاہ، گشت گاہ، سیر، چہل قدمی، ہواخوری، پارک۔ مُتنزَّه جمع متنزهات: سیرگاہ، گشت گاہ، سیر چہل قدمی، تفریح گاہ، پارک۔

نزو: ا۔ نزَا یَنزُو نَزوًا ونُزُوًّا ونَزَوَانًا: کودنا۔ الذکرُ علی الأنثی: نر کا مادہ سے جفتی کرنا۔ چوپایوں اور درندوں سے مخصوص اسم النِزاء والنُزاء ـ به قلبُهُ إلی کذا: دل کا کسی کا مشتاق ہونا۔ ـــ ت الحُمُرُ: گدھوں کا خوشی سے اچھلنا کودنا۔ ـــ الطعامُ: خوراک کا مہنگا ہونا۔ ـ علیه: پر گرکر اسے روندنا۔ ـــ نزوانًا عنه: سے بھاگ جانا۔ نُزِیَ نَزوًا الرجلُ: کا خون بہنا، کہا جاتا ہے: اصابه جرحٌ فُنزِیَ منه فمات: وہ زخمی ہوکر خون بہنے اور نہ رکنے کی وجہ سے مرگیا۔ نَزّی تَنزِیَةً و تَنزِیًا وانزی إنزاءً هُ: کو کودانا۔ تَنَزّی تَنَزِّیًا إلی الشر: برائی میں جلدی کرنا۔ اِنتزی اِنتزاءً: برائی میں جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ اِنتَزَی علی ارض کذا فاخذها: اس نے کسی زمین پر قبضہ کرنے میں جلدی کی۔ النَزوة: کودائی، کودنا، چھلانگ۔ النَازِیَة: نازی کا مونث: تیزی، تیزروی۔ اَکَمةٌ نَازِیَةٌ: اردگرد کی پہاڑیوں سے اونچی پہاڑی۔ النَزَوان (مص): جوش وتیزی، کہا جاتا ہے: به نزوانٌ: اس میں جوش اور تیزی ہے۔ النَزِیُّ والنَزّاء والمُنتَزِی: بہت اچھلنے کودنے والا۔ النَزِیَّة: نَزِیّ کا مونث، اچانک پیدا ہونے والا شوق، اچانک آنے والی مصیبت۔

۲۔ النَازِیَة: کم گہرا پیالہ۔ النَازِیّ: نازی (ہٹلر کی جرمنی میں) قومی اشتراکی پارٹی کارکن۔ النَازِیة: جرمنی کا قومی عقیدہ، (Nazism) النزوة: چھوٹی چیز۔ النزِیَّة: بادل، کم گہرائی والا پیالہ، کلہاڑی کی دھار۔

○ نزا ـ نُزوًا ونُزوًّا ونزوانًا: کودنا، اچھلنا، پھلانگنا، پھاندنا، چھلانگ لگانا، چونک اٹھنا، خوف سے اچھل پڑنا، چھلانگیں لگاتے ہوئے جانا۔ ـــ نزوانًا عن: سے بچ نکلنا۔ نزا به قلبه إلی: کا آرزومند ہونا، متمنی ہونا، کا مشتاق ہونا، کی آرزو ہونا، کی آرزو میں مرنا۔ تنزّی: کودنا، اچھلنا، پھلانگنا، پھاندنا، چھلانگ لگانا، سخت بےچینی یا اضطراب کی حالت میں ہونا، مضطرب ہونا۔ (سینہ کا) ابھر کر گرنا، چڑھنا اترنا، کانپنا، تھرانا، لرزنا۔ نَزوَان: جست زقند، جھپٹ، محصور فوج کا حملہ آوروں پر حملہ یا ہوائی دستے کی مہم، پھٹ پڑنا، (وبا کا) پھوٹ پڑنا، (جنگ کا) اچانک شروع ہونا، وفور

جوش۔ نَزْوَة جمع نَزَوات: چھلانگ، خوف سے اچھل پڑنا، جست، پھلانگ، زقند، طرارہ، چوکڑی، جھپٹ، محصور فوج کا نکل کر حملہ کرنا، ہیجان، وفور جوش، جنگ کا آغاز، تلاطم، چڑھنا، امنڈنا، جھلملاتی لو، لرزاں شعلہ، بھبھوکا، جوش، تندی، تیزی، تشدد، شدت سختی، لہر، موج، غلبہ، حملہ، اچانک غلبہ، دورہ، ترنگ، من کی موج کاری، تخیل کی جولانی۔

نس: ۱۔ نَسَّ ـِ نَسًّا و نَسِيسًا فلانٌ: ہر ایک کام میں پھرتیلا ہونا۔ الناقةَ: اونٹنی کو ہانکنا، ڈانٹنا، کہا جاتا ہے: كان ينسُّ اصحابَهُ: وہ اپنے ساتھیوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ و ـ نَسًّا و نَسَاسًا القومُ: پانی پر آنا۔ نَسَّسَ الماشيةَ: مویشیوں کو چلانا۔ النَسِيس (مص) جسم میں بقیہ سانس دم، اپسیں، آخری سانس، کہا جاتا ہے: بلغ منه نسيسته وہ مرنے کے قریب ہوا، مرنے لگا۔ ـــ جمع نُسُس ہانکا ہوا، انسان وغیرہ کی انتہائی کوشش، طبیعت، النُسُس بیکار اور ردی چیزیں النَسِيسة جمع نَسَائِس: طبیعت، کہا جاتا ہے۔ بلغ منه نسيستهُ: وہ مرنے کے قریب ہوا۔ التَنْسَاس (مص): تیز چال۔ المِسَّة و المِنْساس: لاٹھی۔

۲۔ نَسَّ ـِ نَسِيسًا و نُسُوسًا الخبزُ او اللحمُ: روٹی یا گوشت کا خشک ہونا۔ نَسَّ ـِ نُسُوسًا الحطبُ: جلنے میں لکڑی کا اپنے سرے سے پانی یا جھاگ نکالنا۔ انَسَّ الدابّةَ: چوپایہ کو پیاسا کرنا۔ الناسّ فا، خبزٌ ناسٌّ خشک روٹی، النَسِيس جمع نُسُس: سخت بھوک، جلنے والی لکڑی کے دوسرے سرے پر نکلنے والا پانی یا جھاگ۔ النَسِيسة جمع نَسَائِس: جلتی لکڑی کے سرے پر ظاہر ہونے والا پانی۔

۳۔ نَسَّ ـِ نُسُوسًا لفلان: سے دریافت کرنا۔ تَنَسَّسَ منه الاخبارَ: سے خبر کی بھنک لینا، سے خبر کی تاک میں رہنا۔ النَسِيسة جمع نَسَائِس: چغلی۔

۴۔ نَسْنَسَ الطائرُ: پرندے کا جلدی کرنا۔ ـ البعيرَ اونٹ کو ہانکنا، ڈانٹنا ـــ ت الريحُ: ہوا کا چلنا۔ نُسَاسُ الانسانِ وغیرہ: انسان وغیرہ کی کوشش اور صبر و استقامت۔

۵۔ نَسْنَسَ الرجُلُ: کمزور ہونا۔ النِسْنَاس سخت بھوک، النَسْنَاس (ح): ایک خیالی جانور جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کی شکل کا ہوتا ہے۔ ـ عند العامة: بندر کی ایک قسم۔

نسأ ۱۔ نَسَأَ ـَ نَسْأً و مَنْسَأَةً الشئَ: کو موخر کرنا، کہا جاتا ہے: نَسَأَ اللهُ أجَلَهُ وفي اجَلِه: اللہ تعالیٰ اس کی موت کی گھڑی کو موخر کرے۔ ـــ فلانًا: کی نگہبانی کرنا۔ ـ هُ البيعَ و في البيع: کو ادھار بیچنا۔ ـ نَسْأً الدابّةَ: جانور کو ڈانٹنا، ہانکنا، کو تالاب سے دور ہٹانا۔ ـــ نَسْأً عن فلانٍ دَيْنَهُ: کو قرض کی ادائگی میں مہلت دینا۔ نَسَّأَ تَنْسِئَةً الدابّةَ: جانور کو ہانکنا، ڈانٹنا۔ انْسَأَ إنْسَاءً الشئَ: کو موخر کرنا، کہا جاتا ہے: أنْسَأَ اللّٰهُ اجلَهُ و في اجله: اللہ تعالیٰ اس کی موت کی گھڑی کو موخر کرے۔ ـــ هُ البيع و في البيع: کو کوئی چیز ادھار دینا۔ ـــ عنه: سے پیچھے اور دور ہونا۔ إنْتَسَأَ عنه: سے پیچھے ہونا۔ ـــ تِ الابلُ في المرعى: اونٹوں کا چراگاہ میں دور نکل جانا۔ إسْتَنْسَأَ غريمَهُ: قرض خواہ سے مہلت مانگنا اور اس کا مہلت دیدینا۔ النَسَاء: درازی عمر۔ النُسْأة والنَسِيئة مہلت، تاخیر، کہا جاتا ہے: باعَهُ بنسيئةٍ: اس نے اسے ادھار پر کوئی چیز فروخت کی۔ النَسِيء: تاخیر، کہا جاتا ہے: انَّ لي عنكَ لَمُنْتَسَأً: مجھے تمہاری وجہ سے بلندی اور آسودگی ملی ہوئی ہے۔ المِنْسَأة و المَنْسَأة و المِنسَاة و المَنْسَاة: چرواہے کی بڑی لاٹھی۔

۲۔ نَسَأَ ـ نَسْأَت الماشيةُ: مویشی کا موٹاپا ظاہر ہونا النَاسِئ (فا) جمع نَسَأة: موٹا جانور یا انسان۔

۳۔ نَسَأَ ـ نَسْأً اللبنَ بالماء: دودھ میں پانی ملانا۔ ـ هُ: کو لسی پلانا۔ النَسْءُ (مص): بہت پانی والا دودھ (دودھ کی لسی) عقل زائل کرنے والی شراب۔ النِسْء: گھل مل کر رہنے والا۔ النَسِيئ: بہت پانی والا دودھ۔

۴۔ النَسْء: موٹاپا یا اس کا آغاز۔

نَسَأَ ـ نَسْأَ ه: کو ملتوی کرنا، (کام) لٹکائے رکھنا، میں دیر لگانا، کو موقوف رکھنا، ٹالنا، میں تاخیر کرنا، ڈھیل کرنا، کو معرض تعویق میں ڈالنا۔ ـ نَسَّأَهُ: کو ادائگی کیلئے مہلت دینا، کو قرض دینا، ادھار دینا۔ أنْسَأَ: بمعنی نَسَأَه نَسَاء لمبی عمر۔ نساء عورتیں۔ نسيئة قرض، ادھار، ادائگی میں تاخیر۔ نسيئةً: ادھار۔ مِنسَاة چھڑی، ڈانڈا، سونٹا، لاٹھی، عصا۔

نسب ۱۔ نَسَبَ ـِ نَسَبًا و نِسْبَةً الرجُلَ: کے اوصاف بتانا، کا نسب بیان کرنا، کا نسب دریافت کرنا۔ ـ هُ إلى فلان: کو سے منسوب کرنا۔ نَسَبًا و نَسِيبًا و مَنْسِبَةً الشاعرُ بالمرأة: محبوبہ کے بارے میں سرور آفرین نظم کہنا، غزل میں محبوبہ کی خوبی بیان کرنا، سے معاشقہ کرنا۔ ناسَبَ مُنَاسَبَةً هُ: کے نسب میں شریک ہونا، کا قریبی ہونا، کا مشابہ ہونا۔ تَنَسَّبَ الرجُلُ اليك: مرد کا (تیرے) خاندان یا نسب میں ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اس سے ضرب المثل ہے، القريبُ من تَقَرَّبَ لا من تَنَسَّبَ: قریبی وہ ہے جو محبت اور پیار کی وجہ سے نزدیک ہو نہ کہ خاندان اور نسب میں ہونے کا دعویٰ کرے۔ تَنَاسَبَ القومُ إلى أحْسَابِهِم: اپنا نسب ظاہر کرنا یا بیان کرنا، منسوب ہونا۔ تَنَاسَبَ: باہم مشابہ ہونا۔ إنْتَسَبَ الرجُلُ: اپنا نسب ظاہر کرنا، بیان کرنا۔ إنْتَسَبَ إلى ابيه: اپنے باپ سے منسوب ہونا۔ إسْتَنْسَبَ: اپنا نسب بتانا۔ ـ الرجُلَ: سے اس کا نسب پوچھنا۔ ـــ الشئَ: کو مناسب و موزوں پانا۔ النَسَبُ (مص) جمع أنْسَاب: قرابت، رشتہ داری۔ النِسْبَة و النُسْبَة: قرابت، رشتہ داری، دو چیزوں کے درمیان ربط اور تعلق چیزوں اور تعداد اور مقدار کے درمیان کی نسبت، مثلاً کہا جاتا ہے کہ ۴ کی ۸ سے نسبت ۵ کی ۱۰ سے نسبت جیسی ہے۔ بالنسبة الى كذا: کی بابت، کے متعلق، کے بارے میں، جہاں تک اس کا تعلق ہے، کی بابت، کی نسبت، درباره کے مقابلہ میں کے سلسلہ میں۔ النِسْبِيَة: نظریہ اضافت، یہ نظریہ کہ فاصلہ اور وقت محض اضافی ہیں۔ النَسَابة: قرابت، النَسّاب جمع نَسَّابون و النَسَّابة جمع نَسَّابات: نسب کا علم رکھنے والا، شجرہ کا جاننے والا۔ النَسِيب (مص) جمع أنْسِبَاء و نُسَبَاء (جیسے شریف و شرفاء): مناسب، قریبی، رشتہ دار، خاندانی عورتوں کے متعلق لطیف شعر۔ الأنْسَب: اسم تفضیل، زیادہ مناسب، زیادہ لائق، زیادہ آرام دہ، کہا جاتا ہے: هذا الشِعر انْسَبُ من ذاك: یہ شعر اس شعر سے زیادہ لطیف ہے۔ المُنَاسِب (فا): قریبی، مشابہ، رشتہ دار۔ المَنْسُوب جمع مَنَاسِيب مفع۔ شِعر مَنْسُوب: عشقیہ غزل۔ خطٌّ مَنْسُوب: (مثلث کا) کا قاعدہ۔

۲۔ نَيْسَبَ بينَهُما: دونوں کے درمیان چغلخوری کے لئے دوڑ دھوپ کرنا۔ النَيْسَب: چیونٹیوں کی قطار، چیونٹیوں کا راستہ یا سانپ کا راستہ۔ ـــ و النَيْسَبَان: سیدھا اور واضح راستہ۔

نَسَبَ ـُ نَسَبًا نِسْبَةً ه إلى: کا سے تعلق قائم کرنا، واسطہ یا ربط قائم کرنا، کو کے سپرد کرنا، کو کے پاس بھیجنا، کو سے مربوط کرنا، کو سے لازم و ملزوم بنانا، کی اصل کا پتہ لگانا۔ ـ ہ إلى: کے آباؤ اجداد کا پتہ لگانا۔ ـــ ہ إلى / لِ: کو سے منسوب کرنا، کو سے متہم کرنا۔ نَاسَبَ ہ: کا رشتہ دار ہونا۔ ـــ ہ/ہ: کا جوڑا ہونا،

کے برابر ہونا۔ — ہ: کے مطابق ہونا۔ — ہ/ہ: کے لئے موزوں ہونا، کو فٹ آنا۔ — ہ: کو زیب دینا۔ سجنا۔ پھبنا۔ کے لئے مناسب ہونا۔ موزوں ہونا۔ — ہ: سے ہم آہنگ ہونا، کے مطابق ہونا، کے لئے آرام دہ ہونا۔ ہ: کے خاندان سے ہونا، شادی سے کا رشتہ دار ہونا۔ تَنَاسَبَ: ایک دوسرے کا رشتہ دار ہونا، ایک جیسا ہونا، ملتا ہوا، یکساں، مشابہ، یا ہم شکل ہونا، باہم مماثل، مساوی ہونا، مطابقت رکھنا، متناسب ہونا، باہم فٹ ہونا، — مع: کے مطابق ہونا، کے لئے آرام دہ ہونا۔ اِنْتَسَبَ الی: سے متعلق ہونا، کی اصل یا نسل سے ہونا، سے اپنے آباؤ واجداد کا کھوج لگانا۔ سے اپنا نام حاصل کرنا، کے نام پر نام والا ہونا۔ سے متعلق ہونا، کا رشتہ دار ہونا، کا ہم صحبت ہونا، سے تعلق رکھنا، سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، سے ملحق ہونا، کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہونا، کسی جماعت میں داخل ہونا، سے الحاق ہونا۔ اِسْتَنْسَبَ ہ: کے آباؤ اجداد کا کھوج لگانا۔ — ہ: کو مناسب اور موزوں سمجھنا۔ کو پسند کرنا۔ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا۔ کی منظوری دینا، کی تلافی کرنا۔ نَسَب جمع اَنساب: سلسلہ نسب، نسب، شجرہ نسب، پشت، پیڑھی، نسل و مذہب، اصل، خونی رشتہ، برادری، قرابت، روحانی رشتہ، رشتہ داری، مشابہت، نسبت، لگاؤ، تعلق، شادی کے ذریعہ رشتہ داری، سلسلۃ النسب: شجرہ نسب، خاندان، نسب، علم الانساب۔ علماء الانساب: نسب دان، ماہر انساب۔ نِسْبَۃ: تعلق، لگاؤ، نسبت، انتساب، خاصیت، تہمت، الزام، بہتان، خونی رشتہ داری، برادری، قرابت، مشابہت، بذریعہ شادی رشتہ داری، ربط، ہم آہنگی، موافقت، مطابقت، مشابہت جمع نِسَب: تعلق، لحاظ، سپردگی، نسبت، لگاؤ، علاقہ، برتاؤ، ڈھنگ، طرز عمل، نسبت عددی یا حسابی، مقدار، قدر، تناسب، شرح، نرخ، اندازہ، درجہ، پایہ، ناپ تول، پیمائش، تناسب، مناسبت، قرینہ، اربعہ متناسبہ، جسامت، فیصد، فی صدی، تناسب فی صدی، نسبت جسے لفظ کے آخر میں 'ی' لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ نِسْبَۃً الی (لِ) یا بالنسبۃ الی: کی بابت، کے متعلق، کے بارے میں، جہاں تک اس کا تعلق ہے، کی بابت، کی نسبت، کے مقابلہ میں، کے سلسلہ میں علی نِسْبَۃِ: کے تناسب میں، کے مطابق کے موافق، کے مناسب۔ نِسْبَۃُ الموت: شرح اموات۔ نِسْبَۃ مِئَوِیَّۃ: فی صد، فی صدی، تناسب فی صدی۔ نِسْبِی (قواعد) موصولہ (منطق) لازم و ملزوم۔ متناسب، اضافی، اعتباری، قرابت دار، منحصر، موقوف، نسبتی، تقابلی، تناسبی، ہم نسبت، ہم مقدار۔ نِسْبِیًّا: نسبتی طور پر، اضافی طور پر بنسبۃً وزنٌ نِسبی: ثقل نوعی، کثافت نوعی (Specific gravity)۔ نِسْبِیَّۃ: نظریہ اضافت (یہ نظریہ کہ فاصلہ اور وقت محض اضافی ہیں) نَسِیب: قدیم عربی قصیدہ کا عاشقانہ تعارف جمع اَنْسِباء: رشتہ دار، رشتہ دار (بذریعہ شادی)، دیور یا جیٹھ، بہنوئی، داماد، ممتاز خاندان کا، عالی نسب، خاندانی، اونچے خاندان کا۔ اَنْسَب: کافی سے زیادہ، زیادہ مناسب، زیادہ موزوں، زیادہ اہل، زیادہ صحیح، زیادہ ٹھیک، زیادہ درست۔ لمناسبۃ یا فی مناسبۃ یا بمناسبۃ: کے موقع پر۔ لھذہ المناسبۃ: ان حالات کی وجہ سے، اس وجہ سے، اس لئے، فی کل مناسبۃٍ: جب موقعہ ملے، ہر موزوں موقعہ پر۔ عدم التناسب: عدم تناسب، عدم توازن۔ اِنْتِساب: رکنیت الحاق، طالبٌ بالانتساب: الحاقی طالب علم۔ منسوب جمع مناسیب: سطح، پانی کی سطح، ارتفاع۔ مَنْسُوبُ البحر: سطح سمندر۔ مناسیب عالیہ: پانی کی بلند سطحیں، مد، جوار بھاٹا۔ مَنْسُوبِیَّۃ: خویش پروری۔ متناسب الاجزاء: متناسب، متوازن، ہم آہنگ۔ مُنْتَسِب: رکن، الحاقی۔ عُضْوٌ مُنْتَسِب: کسی ادارے کا معمولی رکن۔

نست: النَّاسُوت: انسانی فطرت، انسان، نسل انسانی، بشریت، بشری خصائل، انسانی ہمدردی۔

نسج: ا۔ نَسَجَ ـُـ نَسْجًا الثوبَ: کپڑا بننا۔ — الکلامَ: کلام کا خلاصہ کرنا کلام گھڑنا، کلام میں رد و بدل کرنا، کو آراستہ کرنا۔ — الشاعرُ الشعرَ: شاعر کا شعر نظم کرنا۔ — الغیثُ النباتَ: بارش کا نباتات کو گنجان اگانا۔ — تِ الریحُ الترابَ او الماءَ: ہوا کا مٹی یا پانی پر لہریں بنانا۔ اِنْتَسَجَ: بنا، بنا جانا، ریت کا یا پانی کا دھاری دار ہونا۔ النَّسْج: مص: کہا جاتا ہے: ثوبٌ نَسْجُ الیمن: یمن کا بنا ہوا کپڑا۔ النساجۃ: [illegible] النَّسَّاج: کپڑے بننے والا، کلام کا خلاصہ کرنے والا، یا کلام گھڑنے والا اور اس میں رد و بدل کرنے والا، کلام کو آراستہ کرنے والا، جھوٹا۔ النسیج جمع نُسُج: بنا ہوا۔ ھو نسیجُ وَحْدِہِ: وہ لاثانی ہے اچھی صفات کے لحاظ سے منفرد ہے۔ النُّسُج: جائے نمازیں۔ النَّسِیجۃ جمع نَسَائِج نَسِیج کا مونث۔ المَنْسَج والمَنْسِج: بننے کی جگہ، جولاہے کا کارخانہ۔ المِنْسَج والمنساج: کرگہ۔

۲۔ نَسَجَ ـُـ نَسَجَانًا الناقۃُ فی سیرھا: اونٹنی کا تیز رفتار سے چلنا۔ المَنْسِج والمِنْسَج من الدابۃ: جانور کے کندھوں اور گردن کی جڑ تک کا بالائی حصہ، کہا جاتا ہے: وَضَعَ رمحَہُ علی منسج فرسہ: اس نے اپنا نیزہ گھوڑے کی گردن پر رکھا۔

(ب) نَسَجَ ـِـ نَسْجًا ہ: کو بننا، کو سلائی سے بننا۔ نَسَجَ علی مِنْوَالِہِ: کی تقلید کرنا، کے نقش قدم پر چلنا، کی طرح عمل کرنا۔ نَسَجَ نَسْجَہ: یہی معنی۔ انتسج: بنا جانا۔ نَسْج: بننا، کپڑا، بناوٹ، بافت، ساخت۔ نَسْجُ الخیال: فرضی قصے کہنا۔ پرواز تخیل۔ نَسَّاج: بننے والا، جولاہا، پارچہ باف۔ نِسَاجَۃ: بننے کا پیشہ یا فن۔ پارچہ بافی کی صنعت۔ نسیج جمع نُسُج واَنْسِجَۃ واَنْسَاج: بناوٹ، بافت، پارچہ، بافتہ بنی ہوئی چیز، بنا ہوا کپڑا، پارچہ۔ نسیج خَلَوِی: جالی دار کپڑا۔ نَسِیجُ العَنْکَبُوت: مکڑی کا جالا، تار عنکبوت، جالے جیسی بودی شے۔ نسیجُ وَحْدِہ: اپنی قسم یا نوع میں منفرد، لاثانی، یکتا، لاجواب، انوکھا، نرالا۔ نَسِیجُ عَصْرِہِ: اپنے وقت کا بے مثال، یکتائے روزگار۔ مِنْسَج: جولاہے کا کرگہ۔ مَنْسَج و مَنْسِج جمع مَنَاسِج: جولاہے کی دکان جولاہے کا کارخانہ۔ مَنْسُوج: بنا ہوا، بنا ہوا کپڑا، کپڑا، پارچہ، بافتہ، بناوٹ، بافت، ریشہ۔ مَنْسُوجات: بنی ہوئی چیزیں، اناج گلہ، کپڑے۔

نسح: نَسَحَ ـَـ نَسْحًا الترابَ: مٹی بکھیرنا۔ نَسِحَ ـَـ نَسَحًا: لالچ کرنا، طمع کرنا۔ النَّسْح والنُّسَاح: کھجوروں کا کوڑا کرکٹ۔ المِنْسَاح: غبار اڑانے کا آلہ۔

نسخ: نَسَخَ ـَـ نَسْخًا الشیءَ: کو زائل کرنا، باطل کرنا، مسخ کرنا۔ — الکتابَ: کتاب کو حرف بحرف نقل کرنا۔ نَاسَخَ مُنَاسَخَۃً: ایک دوسرے کو محو کرنا۔ تَنَاسَخَتِ الأزمنۃُ: زمانوں کا پے در پے آنا۔ — الوَرَثَۃُ: میراث تقسیم ہونے سے پہلے وارثوں کا ایک دوسرے کے بعد مر جانا۔ تَنَاسَخَا: ایک دوسرے کو محو کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ تَنَاسَخُوا الشیءَ: چیز کو ایک دوسرے کو منتقل کرنا، یکے بعد دیگرے لینا۔ اِنْتَسَخَ الشیءَ: کو زائل کرنا۔ الکتابَ: کو نقل کرنا۔ الشیءُ الشیءَ: ایک چیز کا دوسری چیز کا قائم مقام ہونا۔ اِسْتَنْسَخَ الشیءَ: کو زائل کرنا، کوئی چیز لکھنے کو کہنا۔ الناسِخ (فا): کتابوں کو نقل کرنے والا۔ النَّسْخ عند التناسُخیّۃ: تناسخ، آواگون،

روح کا ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہونا ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو تناسخیہ کہتے ہیں۔ النُسْخة جمع نُسَخ: وہ کتاب جس سے نقل کی جائے، نقل کی ہوئی کتاب، کہا جاتا ہے: کتب القاضی نُسختَینِ بحکمه: جج (منصف) نے اپنے حکم کی دو نقلیں کیں۔ بلدةٌ نسیخةٌ ونُسَخِيّ: دور کا شہر۔ التناسُخ (مص): روح کا ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہونا جو تناسخ کے نام سے معروف ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے والے التناسُخیَّة کہلاتے ہیں۔ تَنَاسُخُ الازمنةِ والقُرون: زمانوں اور صدیوں کا پے درپے آنا۔

○ نَسَخَ ـ نَسْخًا ہ: کو قلمزد کرنا، منسوخ کرنا، ختم کرنا، کالعدم قرار دینا، واپس لینا۔ ــــ ہ معاہدہ، ٹھیکہ وغیرہ) منسوخ کرنا۔ ــــ ہ ب کو کے بدلہ میں دینا، رکھنا، لگانا وغیرہ، کو کی جگہ رکھنا، کو کا قائم بنانا۔ ــــ ہ: تحریر کی نقل کرنا۔ ناسَخَ ہ: کو منسوخ کرنا، ترک کرنا، کی جگہ لینا۔ تَنَسَّخَ: قلمزد کیا جانا، منسوخ ہونا، کالعدم قرار دیا جانا۔ تَناسَخَ: ایک دوسرے کا جانشین ہونا، ایک دوسرے کے بعد آنا، پے درپے آنا، روح کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں جانا، روح کا تناسخ ہونا۔ اِنْتَسَخَ ہ: کو منسوخ کرنا، ختم کرنا، کو کالعدم قرار دینا، (تحریر وغیرہ) کو نقل کرنا، کی کاپی کرنا۔ اِسْتَنْسَخَ ہ: کے خاتمہ کا مطالبہ کرنا، تحریر وغیرہ کی نقل کرنا، کاپی کرنا۔ نَسْخ: خاتمہ، انسداد، موقوفی، منسوخی، نسخ، تنسیخ، ترک، ابطال، نقل کرنا، کاپی کرنا۔ قَلَمُ النَسْخ: کاپنگ پنسل Copying pencil۔ آلةُ النَسْخ: نقل گیر کل Duplicating machine چھاپ کل mimeograph، نقلیں تیار کرنے والا پریس نَسْخِي: عام رواں عربی رسم الخط، عام خوش نویسانہ انداز۔ نُسْخة جمع نُسَخ: نقل، (کتاب اخبار وغیرہ کی) کاپی۔ نَسَّاخ جمع نُسَّاخة: نقل نویس، منشی، کاتب، کلرک، تَنَاسُخ: کے بعد ہونا یا آنا سلسلہ جانشینی، تناسخ: آواگون، مرنے کے بعد روح کا نئے جون میں آنا (Metempsychosis) استنساخ: نقل کرنا، نقل، کسی کتاب کی نقل۔ ناسخ: نقل کرنے والا، منسوخ کرنے والا، ختم کرنے والا۔ آیة ناسخة: قرآن مجید کی وہ آیت جو دوسری آیت کو منسوخ کرے۔ منسوخ: منسوخ (قرآنی آیت)

نسر: ا۔ نَسَرَ ـ نَسْرًا ہ عنه: کو سے اتارنا، ادھیڑنا۔ ــ الجرحَ اللحمَ: زخم کا گوشت میں شگاف کردینا۔ ــ الرجلَ: پر تہمت لگانا، کی بدگوئی کرنا۔ ـ نَسْرَاهُ البازی: بازی کا چونچ سے کا گوشت نوچنا۔ نَسَّرَ الحبلَ: رسی کا بل کھولنا۔ تَنَسَّرَ: گدھوں کا شکار کرنا۔ ــــ الحبلُ: رسی کا ٹوٹنا۔ الجرحُ: زخم کا پھول اور پھٹ کر مواد بہنا۔ ــــ الثوبُ و نحوهُ: کپڑے وغیرہ کا گھس گھس کر ختم ہوجانا۔ ـ ت النعمةُ عن فلان: سے آسودگی کا رخصت ہوجانا۔ اِنْتَسَرَ طرفُ الحبل: رسی کا کنارہ ٹوٹ جانا۔ اِسْتَنْسَرَ الطائرُ: پرندے کا قوت میں گدھ کی طرح ہونا۔ ضرب المثل ہے۔ ان البغاث بارضنا یستنسر: ہماری زمین میں کمزور بھی طاقتور ہوجاتا ہے۔ النَسْر (نون کی تثلیث کے ساتھ) زبر زیادہ مشہور اور فصیح ہے جمع نُسُور وانْسُر ونِسَار (ح): گدھ، کنیت ابوالابرد اور ابوالاصبع وابو مالک وابو المنهال وابو یحییٰ ہے۔ مادہ کو ام قَشْعَم کہتے ہیں۔ جمع نُسُور: گھوڑے کے سم کا اندرونی غدود۔ النَسران (فل): دو ستارے۔ ایک النسر الطائر اور دوسرا النسر الواقع کہلاتا ہے۔ النُسَارِيَّة: عقاب، الناسُور جمع نَوَاسیر: ناسور، ہمیشہ بہنے والا زخم۔ عوام اس سے فعل بنا کر کہتے ہیں: نَوْسَرَ الجرحُ او العظمُ: زخم یا ہڈی میں ناسور ہوگیا (معرب سریانی لفظ) المِنْسَر والمَنْسِر جمع مَنَاسِر: شکاری پرندے کی چونچ (اع) بڑے لشکر کے آگے رہنے والا فوجی دستہ۔

۲۔ النِسْرِین: واحد نِسْرِینة (ن): گل سیوتی (فارسی لفظ)

○ تَنَسَّرَ: پھٹ جانا، ٹوٹنا، ٹوٹ جانا، تراتے سے کھلنا۔ مِنْسَر ومَنْسِر جمع مناسر: گروہ، منڈلی، جتھا، جماعت، زمرہ، ٹولی، طائفہ، غول، فوجی دستہ یا رسالہ نُسْطُوری جمع نَسَاطِرة: یونان کے قدیم فرضی پیر دانا اور بادشاہ کا یا کے متعلق۔

نسع: ا۔ نَسَعَ ـ نَسْعًا و نُسُوعًا فلانٌ فی الارض: وَنَسَعَت الأسنانُ: دانتوں کا ڈھیلے مسوڑوں والا ہونا۔ اِنْتَسَعَت الابلُ: اونٹوں کا چراگاہ میں پھیل جانا۔

۲۔ نَسَعَ ـ نُسُوعًا الشئُ: دراز ہونا، لمبا ہونا۔ اَنْسَعَ الرجلُ: شمالی ہوا کھانا۔ الناسِع (فا): لمبی گردن۔ النِسْع جمع نُسَع و نِسَع نُسُوع وأنْسَاع: اونٹ کے تنگ کا تسمہ، اس کے ٹکڑے کو نِسْعَة کہا جاتا ہے، ہاتھ کا جوڑ۔ ــ والریحُ النِسْعِیَّةُ: شمالی ہوا۔ انساعُ الطریق: راستے کے نشانات۔ النُسُوع (مص): لمبائی۔ المِنْسَع: شمالی ہوا۔ المِنْسَعَة: لمبی نباتات والی زمین۔

۳۔ اَنْسَعَ الرجلُ: پڑوسیوں کو بہت ایذا دینا۔

نسغ: ا۔ نَسَغَ ـ نَسْغًا هُ بالسوط: کو چابک مارنا۔ الخبزةَ: روٹی پر لوہے وغیرہ سے گودنا۔ ــــ ت الواشمةُ بالإبرة: جسم کو گود کر نقش بنانا۔ هُ بکلمة: کو طعن وتشنیع کرنا۔ ــــ هُ بکذا: اللبنَ بالماء: دودھ میں پانی ملانا۔ نَسَّغَ هُ: کو نیزہ مارنا۔ ـ ت الشجرةُ: کٹنے کے بعد درخت کا پھوٹ آنا۔ اَنْسَغَ هُ: کو نیزہ مارنا۔ ــ هُ بالسوط: کو چابک مارنا۔ ـ تِ الشجرةُ: کٹنے کے بعد درخت کا پھوٹ پڑنا۔ ـ ت الفسیلةُ: کھجور کے پودے کا گودا نکالنا۔ الناسِغ جمع نُسَّغ فا، رجلٌ ناسِغٌ: نیزہ بازی میں ماہر۔ النُسُغ (ز): پودہ کا رس جو تنے اور پتوں میں دوڑتا ہے۔ المِنْسَغَة: جسم گودنے کا آلہ، روٹی گودنے کی چیز۔

۲۔ نَسَغَ ـ نَسْغًا فی الارض: زمین میں جانا۔ ــ وَنَسَّغَت اسنانهُ: دانتوں کی جڑیں ڈھیلی پڑنا۔ اِنْتَسَغَتِ الإبلُ: اونٹوں کا چراگاہ میں پھیل جانا، بکھر جانا۔ ــ الرجلُ: سوچ بچار کرنا۔ النَسِیغ: پسینہ۔

○ نسغ: پودے کا عرق، رس۔

نسف: ا۔ نَسَفَ ـ نَسْفًا البناءَ: عمارت کو جڑ سے اکھیڑنا۔ ــ الجبالَ: پہاڑوں کو گرانا۔ ــ الشئَ: کو چھاننا۔ ــ الحبَّ بالمِنْسَف: غلہ کو چھاج سے پھٹکنا ــــ ت الریحُ الترابَ: ہوا کا مٹی کو اکھیڑنا، اڑانا۔ ــ نُسْفًا و نُسُوفًا هُ: کو دانت سے کاٹنا۔ اَنْسَفَتِ الریحُ الترابَ: ہوا کا مٹی کو اکھیڑنا، اڑانا۔ تَنَسَّفَ فی الصراع: کشتی میں مدمقابل کو پچھاڑنا۔ تَنَاسَفَا الکلامَ: ایک دوسرے کو راز دار بنانا۔ هما یتناسفان: وہ ایک دوسرے سے راز کی باتیں کررہے ہیں۔ اِنْتَسَفَ البناءَ: عمارت کو جڑ سے اکھیڑنا۔ ــ الشئَ: کو اکھیڑنا۔ ـ ت الریحُ الشئَ: کو ہوا کا اکھیڑ کر متفرق کرنا، اڑا دینا۔ ــــ الکلامَ: کان میں بات بتانا۔ انتسفوا الکلامَ بینهم: بات کو چھپانا۔ اُنْتُسِفَ لونُهُ: کا رنگ متغیر ہونا۔ النسفه: (بتثلیث النون) والنَسَفَة جمع نِسَف ونُسَف ونُسُف ونِسَاف: جھانواں۔ النُسَافة: زمین کا غبار، غلہ کا پچھوڑن۔ دودھ کی جھاگ۔ النَسَّاف والنُسَّاف جمع نَسَاسِیف: ایک سینگ دار بڑی چونچ والا پرندہ۔ النَسَّافة (اع): تارپیڈو

بوٹ(Torpedo boat) تارپیڈو کشتی۔ الطائرۃُ النَّسَّافۃ: ہوائی جہاز جو دشمن کے جہازوں کو بھک سے اڑا دے۔ النَّسُوف جمع مَنَاسِیف: اونٹ جو گھاس کو جڑ سے اکھیڑے۔ عقبۃٌ نَسُوفٌ: لمبی اور دشوار گزار گھاٹی۔ النَّسِیف: کاٹنے کا نشان، راز۔ شَیٌٔ نَسِیف: چھانی ہوئی چیز۔ کلامٌ نَسِیف: پوشیدہ گفتگو۔ النَّسِیفۃ: چھاوان۔ المِنْسَف جمع مَنَاسِف: چھاج۔۔۔ والمَنْسِف جمع مَنَاسِف: گدھے کی تھوتھنی۔ المِنْسَفَۃ: عمارت اکھیڑنے کا آل، چھلنی۔

۲۔ نَسَفَ ــ نَسْفًا و نُسُوفًا الاناءُ: برتن کا بھر کر بہہ جانا۔ النُّسْفان من الآنیۃ: بھر کر بہنے والا برتن۔

نَسَفَ ــ نَسْفًا ہ: کو پیسنا، سرمہ کر دینا، کو ناقابل تقسیم ذرات میں تقسیم کرنا، پر پھوار ڈالنا، ہلکا چھڑکاؤ کرنا، ہوا کا گرد و غبار اڑا لیجانا اور بکھیرنا، کو بھک سے اڑا دینا، بحری جہاز کو تارپیڈو مارنا یا تارپیڈو مار کر تباہ کرنا یا ڈبو دینا۔ اَنْسَفَ ہ: ہوا کا گرد و غبار اڑا لیجانا اور بکھیر دینا۔ اِنْتَسَفَ ہ: کو اڑا دینا، مسمار کر دینا، زمین کے برابر کر دینا، کو بھک سے اڑا دینا۔ نَسْف: بھک سے اڑانا۔ تباہی انہدام۔ نُسَافۃ: بھوسہ، چوکر، گھاس پھوس، کٹی ہوئی گھاس یا چربی۔ نَسَّافۃ جمع نَسَّافات: تارپیڈو کشتی۔ مِنْسَف و مِنْسَفَۃ جمع مَنَاسِف: چھاج، نَاسِف و نَاسِفَۃ: دھماکے سے پھٹنے والا یا بھک سے اڑ جانے والا مادہ) ڈینا مائٹ(Dynamite)

نسق: نَسَقَ ـ نَسْقًا الدُّرَّ ونحوہ: موتی وغیرہ پرونا۔ ــ الکلامَ: کلام کو ترتیب دینا۔ نَسَّقَ الشیَٔ: کو ترتیب دینا، منتظم کرنا۔ نَاسَقَ بینھما: ایک دوسرے کے پیچھے چلنا۔ اَنْسَقَ الرجُلُ: سجع کہنا۔ تَنَسَّقَ و تَنَاسَقَ و اِنْتَسَقَتِ الاشیاءُ: باترتیب ہونا، نظم میں ہونا۔ تَنَاسَقَ کلامُہُ: کے کلام کا ترتیب وار ہونا صفت مُتَنَاسِق، النَّسْق (مص)۔ حروف النَّسْق: حروف عطف، کہا جاتا ہے: ھذا نَسَقٌ علی ھذا: وہ اس پر معطوف ہے۔ النَّسَق: باترتیب کہا جاتا ہے: جاء القومُ وجاءَ ت الخیلُ نَسَقًا: لوگ باترتیب آئے، گھوڑے باترتیب آئے۔ غرستُ النخل نَسَقًا: میں نے کھجور کے پودوں کو ایک قطار میں لگایا۔ ھذا دُرٌّ نَسَقٌ و کلامٌ نَسَقٌ وثغرٌ نَسَقٌ: یہ موتی، گفتگو، اور دانت باترتیب ہیں۔ حروف النَّسَق: حروف عطف۔ النَّسِیق: باترتیب۔

نَسَقَ ـ نَسْقًا و نَسَّقَ ہ: (موتی) لڑی میں پرونا، کو ترتیب سے رکھنا، مرتب کرنا، آراستہ کرنا، نصب کرنا، کو صف بستہ کرنا، کی صف بندی کرنا۔ تَنَسَّقَ: باترتیب ہونا، ترتیب میں ہونا، مرتب ہونا۔ تَنَاسَقَ: باترتیب ہونا، ترتیب میں ہونا مرتب ہونا، ٹھیک ہونا، ہم پلہ ہونا، مربوط ہونا۔ انتسق: بمعنی تَنَسَّقَ۔ نَسَقًا: باقاعدہ ترتیب میں۔ قطار میں، صف میں۔ علی نسق: کے انداز یا اسلوب میں علی نسقٍ واحدٍ: اسی طرح، یکساں، برابر، بلا دقت، بلا رکاوٹ، تنسیق داخلی: اندرونی آرائش۔ مُنَسَّق: باترتیب، ہم آہنگ، مُتَنَاسِق: باترتیب، مرتب۔ باقاعدہ، موزوں، مناسب۔

نسك: ا۔ نَسَكَ ـ نُسْكًا ونِسْكًا ونُسُكًا ونُسُوكًا ونَسَاکَۃ و مَنْسَكًا الرجُلُ: زاہد بننا۔ درویش بننا۔ ــ لِلّٰہِ: ــ نَسْکًا الثوبَ: کپڑے کو دھو کر پاک کرنا۔ ــ الی طریقۃٍ جمیلۃٍ: پر اچھے طریقہ پر مداومت کرنا۔ ــ البیتَ: گھر میں آنا۔ نَسُكَ ـ نَسَاکَۃً: درویش ہو جانا۔ تَنَسَّكَ: زاہد و عابد بننا۔ النَّاسِك (فا) جمع نُسَّاك: عابد، زاہد، النسک (بتثلیث النون): عبادات، خدا تعالیٰ کا ہر ایک حق۔ النَّسْك: مانوس جگہ۔ النُّسُك: نذر جو اللہ تعالیٰ کیلئے پیش کی جائے۔ ذبیحہ۔ النُّسُك: عبادت، اللہ تعالیٰ کا ہر ایک حق۔ اللہ کیلئے پیش کی جانے والی نذر۔ ذبیحہ، چاندی کے ٹکڑے، خون کہا جاتا ہے: من فعل کذا و کذا فعلیہ نُسُكٌ: جو ایسا کرے گا اس پر خون بہانے کی نذر واجب ہو جائے گی۔ النَّسِیك: سونا، چاندی۔ النَّسِیکَۃ جمع نَسَائِك: سونے چاندی وغیرہ کا ٹکڑا۔ ذبیحہ۔ المَنْسَك جمع مَنَاسِك: مانوس جگہ۔ ــ والمَنْسِك جمع مَنَاسِك: قربان کی رسم، قربانی، قربانی کی جگہ۔ مَنَاسِكُ الحجّ: حج کی عبادات۔ المَنْسُوك مفع: ثوبٌ مَنْسُوكٌ: پانی سے دھلا ہوا پاک کپڑا۔

۳۔ عشبٌ نَاسِك: بہت سبز گھاس۔ ارضٌ نَاسِکَۃٌ: تازہ بارش والی سرسبز زمین۔ فرسٌ مَنْسُوکَۃٌ: چھوٹے بالوں والا نرم و ملائم گھوڑا۔

نَسَكَ ـ و نَسُكَ ـ نَسَاکَۃً: پرخلوص سچی زندگی گزارنا، زاہد یا تارک دنیا کی زندگی گزارنا۔ تَنَسَّكَ: بمعنی نَسَكَ ونَسُكَ: نیز نیک مخلص، پارسا، دیندار، پرخلوص ہونا، آخرت پسند ہونا۔ نَسْك ونُسْك ونُسُك: زہد و اتقا، پارسائی، تقوی، خدا ترسی، دینداری، صدق، اخلاص، ترک دنیا، زہد، گوشہ نشینی۔ نُسُکِی: زاہدانہ۔ نُسُك: قربانی، حج کی عبادت۔ نَاسِك جمع نُسَّاك: تارک الدنیا، گوشہ نشین، زاہد، سنیاسی، جوگی، توبہ و استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں پر نادم، کفارے کے لئے عقوبت نفس برداشت کرنیوالا، دین دار، متقی، پارسا، پرہیز گار، عابد، پجاری، مَنْسِك جمع مَنَاسِك: حجرہ، کٹیا، جھگی، خانقاہ، گوشہ تنہائی، تارک الدنیا کا حجرہ، قربان گاہ، رسم، ارکان عبادت، طریق ادائیگی رسوم یا عبادت خصوصاً حج کے دوران۔

نسل: نَسَلَ ــ نَسْلاً الصوفَ اوالریشَ: اون یا پر جھاڑنا یا گرانا۔ ــ الولدَ وبالولد: بچہ جننا۔ ــ الرجُلُ: کثیر الاولاد ہونا۔ ــ نُسُولاً الریشُ اوالصوفُ: پر یا اون جھڑنا، گرنا۔ ــ ـِ نَسْلاً ونَسَلاً ونَسَلانًا فی مشیہ: تیز چلنا۔ اَنْسَلَ الصوفَ اوالریشَ: اون یا پر گرانا۔ ــ الصوفُ: اون گرنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ ــ الوالدُ الولدَ: والد کا بچہ کا باپ ہونا، پیدا کرنا۔ ــ ت الدابّۃُ: جانور کے بال گرنے کا زمانہ قریب آنا۔ ــ فی عَدْوِہٖ: تیز دوڑنا۔ ــ القومَ: سے آگے بڑھنا۔ تَنَاسَلَ القومُ: بعض کا بعض سے پیدا ہونا، پیدائش سے تعداد میں بڑھنا۔ ــ بنو فلان: فلاں قبیلہ کا کثیر الاولاد ہونا۔ النَّاسِل (فا) جمع نُسَّل: تیز رفتار۔ النَّسْل (مص) جمع اَنْسَال: خلق، اولاد، ذریت، النَّسَل (مص): تھن سے خود بخود نکلنے والا دودھ۔ سبز انجیر سے نکلنے والا دودھ۔ النُّسَل: واحد نُسَالَۃ: پیدائش پر گرے ہوئے بال یا اون۔ النَّسَّال والنُّسُول: تیز دوڑنے والا۔ النَّسُولَۃ من المواشی: نسل بڑھانے کے لئے حاصل کردہ مویشی، بہت نسل والے مویشی۔ النَّسِیل: گری ہوئی اون یا پر، شہد جو چھتہ سے بہہ نکلے۔ النَّسِیلَۃ: بچہ نسیل کا واحد۔ جو چھتہ سے بہہ نکلنے والا شہد۔

نَسَلَ ــ نَسْلاً ہ: بچہ کا باپ ہونا، بچہ پیدا کرنا، بچہ کا باپ بننا۔ ــ ـُ ہ: کو توڑنا، نکالنا، کی دھجیاں اڑانا یا بکھیرنا، کھولنا، ــ نُسُولاً: بالوں یا پروں کا گرنا۔ نَسَّلَ ہ: چیتھڑے ریشوں میں الگ کرنا کو چیتھڑے کر دینا، کو ادھیڑنا۔ اَنْسَلَ ہ: بچہ کا باپ ہونا، باپ بننا، بچہ پیدا کرنا۔: بالوں یا پروں کا گرنا۔ تَنَاسَلَ: افزائش نسل کرنا، نسل بڑھانا، اولاد پیدا کرنا، بچوں کا باپ بننا۔ ــ من: کی نسل سے ہونا، سے چلے آنا۔ نَسْل جمع اَنْسَال: آل، اولاد، نسل، بال بچے، اولاد یا نسل۔ تقلیلُ النَّسْل: منع حمل، خاندانی منصوبہ

بندی birth control - الحرث والنسل: انسانی تہذیب وتمدن - نُسالة: ریشہ دار روئی، جھالریں، بلو، بن، صوف - مُنَسّالة: روئی دھنکنے اور صاف کرنے کی کل - نَسُولة: بہت نسل والا جانور - نسيلة: نئی اشاعت، إنسال: افزائش نسل - تناسل: افزائش نسل، نسل، پیڑھی، نسلی تسلسل - اعضاء التناسل: آلات یا اعضاء تناسل - ضعف التناسل: نامردی - تناسلي: پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، افزائش نسل کا یا کے متعلق، توالد وتناسل کے متعلق، نسل کے متعلق، مرض تناسلي: جماعی مرض - تناسليات: آلات تناسل، اعضاء تناسل -

نسم: ۱- نَسَمَ ـِ نَسْمًا و نَسِيمًا و نَسَمَانًا تِ الريحُ: ہوا کا آہستہ چلنا - ـــ نَسْمًا ونَسِمَ ـَ نَسَمًا الشئُ: متغیر ہونا - نَسُمَ ـُ نَسَامَةً المكانُ: جگہ کا بہت چشموں والی ہونا - نَسَّمَ النسمةَ: (غلام، لونڈی) کو آزاد کرنا - (کسی کو) تقویت پہنچانا، میں روح پھونکنا، جان ڈالنا ـــ الاسيرَ: قیدی کو رہا کرنا - تَنَسَّمَ الرجلُ: سانس لینا - ـ تِ الريحُ: ہوا کا آہستہ چلنا - المكانُ بالطيب: جگہ کا خوشبو سے مہک جانا - ـــ فلانٌ العلمَ او الخبرَ: حصول علم یا خبر کی دھن میں لگا رہنا، کہا جاتا ہے - تَنَسَّمْتُ منه علماً: میں نے اس سے علم حاصل کیا - ـــ الريحَ: بو سونگھنا، بو پانا - الولدُ: پیٹ کے بچہ کا جسم پکڑنا اور جاندار ہونا - النّاسِم (فا): قریب الموت بیمار - النَّسَم (مص) جمع انسام: زندگی کا سانس باد سحر، باد نسیم، تاک - نسمہ کی جمع، دودھ یا چکنائی کی بو - النُّسْمة: حمام وغیرہ میں راستے، النَّسَمة (طب): مرض ربو، دمہ کہا جاتا ہے: اصابته نَسَمَة: اسے دمہ ہوگیا - ـــ جمع نَسَم ونَسَمات: زندگی کا سانس، انسان یا ہر جانور جس میں روح ہے، زندہ ہستی، غلام، لونڈی، النسيم (مص) جمع نِسام: پسینہ، روح، نرم ہوا، کہا جاتا ہے: هو ثقيل الظلّ بارد النسيم: وہ بھاری ہے - النَّيْسَم: زندگی کا سانس - الأناسِم: لوگ کہا جاتا ہے: ما في الاناسم مثلهُ: لوگوں میں اس جیسا کوئی نہیں -

۲- نَسَمَ ـِ نَسْمًا البعيرُ الارضَ بخفّهِ: اونٹ کا زمین پر پاؤں مار کر نشان ڈالنا - نَسِمَ ـَ نَسَمًا البعيرُ: اونٹ کے تلوے کا تھک جانا - النَّسَم: مٹا ہوا راستہ - النَّيْسَم: مٹا ہوا راستہ - المَنْسِم جمع مَناسِم للابل: اونٹ کا تلوا، شتر مرغ کا پاؤں، نشان، راستہ، رخ کہا جاتا ہے: الى اين مَنسِمُكَ: کہاں کا رخ ہے؟ یعنی کدھر جا رہے ہو؟

۳- نَسَمَ في الامر: کام شروع کرنا، معاملہ شروع کرنا - ناسَمَ مُناسَمةً و نِسامًا ه: کے قریب ہونا، نزدیک ہونا، سے کانا پھوسی کرنا، سرگوشی کرنا -

۴- تَنَسَّمَ الجمرُ: چنگاری کا بھڑکنا -

نسم: نَسَمَ ـــ نَسْمًا و نَسَمانًا: (ہوا کا) آہستہ چلنا - نَسَّمَ في: کو شروع کرنا - تَنَسَّمَ: (ہوا) کا چلنا، سانس لینا - ه: کو (سانس سے) لینا، کھینچنا، جذب کرنا، (کا) لطف اٹھانا ـــ ب: (خوشبو) نکالنا، چھوڑنا، سے خوشبودار ہونا، کی یاد دلانا، کی خوشی ہونا یا دینا - تَنَسَّمَ الخبرَ: خبر تلاش کرنا - نَسَم جمع أنسام: سانس، زندگی کا سانس - نَسَمَة جمع نَسَمات: سانس، پھونک، دم، کش، مہک، ہوا کا ہلکا سا جھونکا، خوشبو کی لپٹ، باد سحر، نسیم، مہلک، خوشبو، سانس لیتا ہوا جیتا جاگتا، زندہ ہستی، شخص، روح، نفس (جمع نفوس) - نَسِيم جمع نِسام و نَسائم: ہوا کی خوشبو، تازہ ہوا، ہوا، باد، تیز ہوا، باد سحر، نسیم - شمّ النسيم: مصر کا ایک عوامی تہوار جو پیر کے دن منایا جاتا ہے - مَنْسِم جمع مَناسِم: جانوروں کا تلوا، پیر کی گدی - مُتَنَسَّم: جگہ جہاں ہوا وغیرہ چلتی ہے، کوئی چیز جو سانس کے ذریعے نکالی یا چھوڑی جاتی ہے یا نکلتی ہے جاری ہوتی ہے یا اس کا ظہور ہوتا ہے یا جہاں پسینہ نکلتا ہے -

نسناس: نَسْناس و نِسْناس جمع نَسانِس: جنگل کی خیالی مخلوق جس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ ہے - بندر

نسو: نَسا يَنسُو نَسْوةً الرجلُ: کام چھوڑ دینا - أَنْسى إنساءً الشئَ: کو چیز ترک کرنے کا حکم دینا - النَّسا جمع أنساء تثنية نَسَوان و نَسَيان (ع ا): سرین سے ٹخنے تک جانے والی رگ - النَّسْوة (مص): دودھ کا ایک گھونٹ - النِّسْوة والنُّسْوة والنِّساء والنِّسْوان والنُّسْوان والنِّسْوُون: عورتیں، مرأة کی جمع نسبت کے لئے نِسْوِيّ ونُسْوِيّ تصغير نُسَيّة ونُسَيّات بھی کہا جاتا ہے - المَنْسُوّ: عرق النساء کی بیماری میں مبتلا -

نسي: ۱- نَسِيَ يَنْسَى نَسًى: عرق النساء میں مبتلا ہونا صفت نَسٍ و أَنْسى م نَسِيَة و نَسْياء، نَسى يَنْسِي نَسْيًا الرجلَ: کی عرق النساء پر مارنا - الأَنْسِي (ع ا): ٹانگ کے نچلے حصہ کی ایک رگ - المَنْسِي: عرق النساء میں مبتلا

۲- نَسِيَ يَنْسَى نَسْيًا ونِسْيانًا ونِسايةً ونَسْوةً الشئَ: کو بھول جانا - نَسّى وأنْسى الرجلَ الشئَ: مرد کو کوئی چیز بھلا دینا - تَناسى الشئَ: کو بھولنے کا بہانہ کرنا - النِّسْي والنَّسْي جمع أنساء: بھولی ہوئی چیز - معمولی چیزیں جو قافلہ چھوڑ جائے - النِّسْيان والنَّسّاء: بہت بھولنے والا - النَّسِي: بہت بھولنے والا، جو شخص اپنی قوم میں شمار نہ کیا جائے - المَنْسِي (مفع): بھولی ہوئی (چیز، بات وغیرہ)

۳- المِنْساة: لاٹھی، (اصل المنساءة (ہمزہ) سے ہے)

نسوی ونسائی: زنانہ، نسوانی، عورتوں کا، عورتوں کے متعلق - نِسائيات: زنانہ امور، عورت کی دنیا سے متعلق اشیاء - نِسائية: مساوات نسواں کی حامی تحریک - ما أنسَ لا أنسى: میں کبھی نہیں بھولوں گا (لفظی: جو بھی میں بھول سکوں اسے ہرگز نہیں بھولوں گا) - ما أنسَ لا أنسى، إن أنسَ فلا أنسى: میں کبھی نہیں بھولوں گا - أنسى ه ه: کو کوئی چیز بھلا دینا - تَناسى ه: کو بھولنے کا بہانہ کرنا، کو بھولنا، نظر انداز کرنا، چھوڑ دینا، نہ کرنا، سے غافل ہو جانا - نَسْيٌ: فراموشی، بھول، نسیان - تغافل، بھولی ہوئی چیز - أصبح نَسْيًا مَنْسِيًّا: مکمل طور پر فراموش ہو جانا، بھولا بسرا ہو جانا - نَسِي و نَسّاء و نَسْيان: بھولنے والا، تغافل شعار، غافل، فراموش کنندہ، نِسيان: … مَنْسِي: بھولا ہوا - مَنْسِيات: وہ چیزیں وغیرہ جو پہلے کبھی از بر تھیں اب بھول چکی ہیں -

نش: ۱- نَشَّ ـِ نَشًّا ونَشِيشًا النبيذُ: نبیذ کا جوش مارنا - الماءُ في الكوز الجديد: پانی کا نئے کوزے میں آواز کرنا - اللحمُ: گوشت کا ہانڈی یا کڑاہی میں آواز کرنا - النَّشِيش (مص): ابلنے پر پانی وغیرہ کی آواز -

۲- نَشَّ ـُ نَشًّا المسكَ ونحوهُ: مشک وغیرہ کو باریک کرنا - ـــ الشئَ: کو ملانا -

۳- نَشَّ ـُ نَشًّا الدابةَ: جانور کو آہستہ ہانکنا - المِنَشّة: مورچھل (مکھیاں دور کرنے کا) -

۴- نَشَّ ـِ نَشًّا ونَشِيشًا الغديرُ: تالاب کا پانی خشک ہونے لگنا - ـــ الرطبُ: تازہ کھجوروں کا پانی خشک ہونا - ـــ تِ اللحمةُ: گوشت کے ٹکڑے کا پانی ٹپکنا، عام لوگ برتن میں جو کچھ ہو ٹپک جائے تو کہتے ہیں: نَشَّ الاناء، النَّشّ عند العامة: دیوار میں بارش کی وجہ سے نمی - النَّشّاش: مبالغہ کا صیغہ، سیاہی چوس، جاذب Blotter, Blotting paper -

ارضٌ نَشَّاشَةٌ: شور زمین۔ ارضٌ نشِشة: نمناک زمین جس میں کچھ نہ اگے۔

۵۔ النَّش: ہر چیز کا نصف۔

۶۔ نَشْنَشَ نَشْنَشَةً تِ القِدرُ: ہانڈی کا جوش کھاتے وقت آواز کرنا۔ ۔۔۔ الشئَ: کو ہٹانا اور زور سے ہلانا۔ ۔۔۔ الثورَ: بیل کو ہانک کر نکال دینا۔ ۔۔۔ الرجُلُ: کام میں جلدی کرنا۔ تَنَشْنَشَ: نَشْنَشَ کا مطاوع، تازہ دم ہونا (عام لوگوں کی زبان میں)۔ ۔۔۔ المریضُ: کی صحت بحال ہونا (عام زبان میں) النَّشْنَشَة (مص): کھڑکھڑاہٹ (زرہوں، کاغذ، نئے کپڑے وغیرہ کی)۔ النَّشْنَاش والنَّشْنَش و النَّشْنَشِی: (کام اور حرکات میں) چست، پھرتیلا۔

۷۔ نَشْنَشَ نَشْنَشَةً الجلدَ: کھال اتارنا۔ الثوبَ: کپڑا اتارنا۔ ۔۔۔ الوعاءَ: برتن کو جھاڑنا۔ ۔۔۔ اللحمَ: گوشت جلدی کھانا۔ ۔۔۔ السَّلَبَ: مالِ غنیمت (لوٹ کا مال) لینا۔ تَنَشْنَشَ الشجرَ: درخت کی چھال اتارنا۔ ارضٌ نَشَّاشَة: کھاری بنجر زمین۔ شور زمین۔

نَشَّ ۔ نشًّا و نَشِیشًا: تلنے کے وقت چھن چھن کی آواز نکلنا، ابلنا، ابلنے کے قریب ہونا، بلبلے کی آواز پیدا کرنا، کھولتے، جوش کھاتے، سی سی کی آواز پیدا کرنا، پھنکارنا، مکھیاں اڑانا۔ ورق نشَّاش: سیاہی چوس، جاذب۔ مِنَشَّة: مکھیاں اڑانے کا مورچھل۔

نَشَأ: نَشَأَ ۔ یَنْشَؤُ ۔ نَشْأً و نُشُوءًا و نَشْأَةً و نَشَاءَةً و نَشَاءَةَ الطفلُ: بچہ کا جوانی کو پہنچنا، کہا جاتا ہے۔ نشأتُ فی بنی فلان: میں فلاں قبیلہ میں جوان ہوا اور اس میں پرورش پائی۔ اسم النُّشْء۔ ۔۔۔ تِ السحابةُ: بادل اونچا ہونا، گھٹا اٹھنا۔ ۔۔۔ الشئُ: پیدا ہونا، زندہ ہونا۔ نَشَّأَ تَنْشِئَةً ہُ: کو پالنا، کی پرورش کرنا۔ ۔۔۔ اللّٰہُ السحابةَ: اللہ تعالیٰ کا گھٹا لانا۔ اَنْشَأَ اِنْشَاءً ہُ: کو پالنا۔ ۔۔۔ الشئَ: کو پیدا کرنا۔ ۔۔۔ اللّٰہُ الشئَ: کی تخلیق کرنا۔ ۔۔۔ اللّٰہُ الخلق: تخلیق شروع کرنا۔ ۔۔۔ الحدیثَ او الکلام: کو وضع کرنا، کی ابتداء کرنا۔ علمُ الإنشاء: مضمون نگاری۔ ۔۔۔ اللّٰہُ السحابةَ: خدا تعالیٰ کا بادل کو اٹھانا۔ ۔۔۔ زیدٌ: عمدہ شعر کہنا، یا بہترین خطبہ دینا۔ ۔۔۔ فلانٌ دارًا: مکان بنانا شروع کرنا۔ ۔۔۔ فلانٌ یضربُ: فلان کا مارنے لگانا۔ ۔۔۔ من المکان: جگہ سے نکلنا، کہا جاتا ہے من این انشأتَ: تو کہاں سے نکلا۔ تَنَشَّأ تنشُّؤًا الی حاجتہ: ضرورت کے لئے جانا۔ اِسْتَنْشَأ اِسْتِنْشَاءً فلانًا قصیدةً او خطبةً: سے قصیدہ یا خطبہ کی فرمائش کرنا۔ العَلَمَ فی المفازة: صحرا میں جھنڈا کھڑا کرنا۔ الاخبارَ: خبروں کی حقیقت کا پتہ لگانا۔ ۔۔۔ النَّاشِئُ جمع نَشْءٌ و نَشَاءٌ و نَاشِئَة: جوانی کے نزدیک پہنچا ہوا لڑکا یا لڑکی۔ ۔۔۔ جمع نَوَاشِئُ: رات کو واقع یا شروع ہونے والی چیز، بات وغیرہ، دن یا رات کا آغاز۔ الناشئة جمع نواشِیء: ناشئ کا مونث: جوانی کو پہنچی ہوئی لڑکی۔ ۔۔۔ سونے کے بعد اٹھنا۔ النَّشْءُ (مص) جمع نَشَأ: نسل، کہا جاتا ہے۔ ہو نشْءُ سوءٍ او من نشْءِ سوءٍ: وہ بری نسل کا ہے۔ الناشئ کی جمع۔ اونٹ کے چھوٹے بچے۔ اونچا بادل یا بادل کا وہ حصہ جو پہلے ظاہر ہو۔ النَّشَأَة: نباتات کی نازک کونپلیں۔ النَّشِئ: بادل کا وہ حصہ جو پہلے ظاہر ہو۔ النَّشِیئَة: جوانی کی پہنچی ہوئی لڑکی۔ نباتات کی نازک کونپلیں۔ المَنْشَأ: پیدا ہونے کی جگہ، کہا جاتا ہے: مولدی و مَنْشَئِی فی بنی فلان: میری پیدائش اور جوانی کو پہنچنا فلاں قبیلہ میں ہوا۔ المُنْشَأ والمُسْتَنْشَأ: بلند جھنڈا، بلند نشان راہ۔

نَشَأَ ۔ وَنَشُؤَ ۔ نَشْأً و نُشُوءًا و نَشَاءَةً: اٹھنا، اوپر (کی طرف) اٹھنا، ظاہر ہونا، برآمد ہونا، نکلنا، نظر آنا، دھندلا سا اور بڑا دکھائی دینا، وجود میں آنا، ہونا یا ہو جانا، پیدا ہونا، ظہور میں آنا، واقع ہونا، اچانک آپڑنا، خلاف توقع پڑ جانا۔ ۔۔۔ من/عن: کا نتیجہ ہونا، سے نکلنا، سے نکل جانا، سے نتیجہ نکلنا، کے بعد ہونا، سے حاصل کرنا۔ ۔۔۔: بڑھنا، جوان ہونا، تکمیل کو پہنچنا، نشوونما پانا، قدرتی طریقے سے نشوونما ہونا۔ نَشَأ نُشُوءًا ذاتیًا: خود شروع ہونا، خود بخود جلوہ گر ہونا، بیدار ہونا، پیدا ہونا، خود کار از طور پر یا آپ سے آپ واقع ہونا۔ نَشَّأ ہ: بچہ کی تربیت کرنا، پرورش کرنا، پالنا۔ اَنْشَأ ہ: کو اٹھانا، نکالنا، چڑھانا، کو اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا۔ ۔۔۔ ہ: کو وجود میں لانا، بنانا، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، کا باعث ہونا، کی صورت پیدا کرنا، کو تعمیر کرنا، کو پیدا کرنا، کو وجود میں لانا، کو شروع کرنا، کو پانا، کو منظم کرنا، کو قائم کرنا، کو مستقل بنیادوں پر استوار کرنا، کو لگانا۔ (تحریر کا ٹکڑا ترتیب دینا، مرتب کرنا، لکھنا، (کتاب) لکھنا، بچہ کی پرورش کرنا، بچہ پالنا، کو شروع کرنا۔ تَنَشَّأ: بڑھنا، تکمیل کو پہنچنا، نشوونما پانا، قدرتی طریقے سے نشوونما ہونا، پھیلنا، جڑ پکڑنا۔ اِسْتَنْشَأ ہ: خبر کی تلاش کرنا، خبر کو ڈھونڈنا، خبر کا سوال کرنا۔ نَشْء: نوجوان، نئی نسل۔ النشءُ الجدید: نوجوان نسل۔ نَشْأَة: بڑھنا، نشوونما، ابتدائی زندگی، نوجوانی، اٹھنا، پیدائش، بناوٹ، ترتیب، آغاز، تخلیق، تکوین، اصل، ابتداء، آغاز، نوجوان نسل، تہذیب، تمدن، ثقافت، شائستگی، تربیت (شخص کا) پس منظر۔ نَشْأةٌ مُسْتَأْنَفَة: دوسرا جنم، دوسری بار پیدائش، دوسرا روپ، دوسرا ظہور، کسی چیز کا احیاء، دور ترقی، علوم وفنون کے احیاء کا زمانہ (Renaissance اور Rebirth) نُشُوء: بڑھنا، نشوونما، ارتقاء، ترقی، تکمیل، پختگی، بہتر صورت، واقعات کا یکے بعد دیگرے ظاہر ہونا۔ مذهب النشور والترقی: نظریہ ارتقاء و ترقی۔ النشوئیون: ارتقاء ترقی کا نظریہ رکھنے والے۔ مَنْشَأ: ابتداء یا نشوونما کی جگہ، جائے پیدائش، جنم بھومی، وطن، پیدائشی ملک، اصل، ابتداء، اٹھنا، پیدائش، ترتیب، آغاز، منبع، سرچشمہ، جڑ، بنیاد۔ تَنْشِئَة: تربیت، تعلیم۔ انشاء: تخلیق، ابتداء، آغاز، تنظیم، استحکام، کسی کام کی تیاری، تعلیم، تربیت، بناوٹ، ساخت، آراستگی، ترتیب، بنانا، تعمیر، بنیاد، بنیاد رکھنا، نصیب، تصنیف، تالیف، لکھنا، خطوط لکھنا، لکھنے کا سٹائل یا آرٹ، مختصر مضمون یا مقالہ، رسالہ جو کسی خاص موضوع پر لکھا جائے۔ الانشاءات عسکریة: فوجی تنصیبات۔ اعادة الانشاء: دوبارہ تعمیر از سر نو تعمیر، اصلاح تجدید۔ اِنْشَائِی: ایجادی، تخلیقی، تعمیری، لکھنے یا لکھنے کے انداز سے متعلق، طرز تحریر کے متعلق اسلوب بیان کے متعلق، درست کر کے شائع کرنا، اداریہ سے متعلق۔

نشب: ۱۔ نَشِبَ ۔ یَنْشَبُ ۔ نَشَبًا و نُشُوبًا و نُشْبَةً الشئُ فی الشئ: چیز کا چیز سے چمٹنا یا لگ جانا۔ ۔۔۔ العظمُ فی حلقہ: حلق میں ہڈی چبھنا، کہا جاتا ہے۔ نشب فلان مَنْشَبَ سوءٍ: وہ پیچیدہ کام میں پھنس گیا۔ ما نشبتُ افعل کذا: میں نے یہ کام کرنا بند نہیں کیا۔ لم یَنْشَبْ أن مات: اس نے مرنے میں دیر نہ لگائی۔ ۔۔۔ نُشُوبًا تِ الحربُ بین القوم: میں گھمسان کی لڑائی ہونا۔ ۔۔۔ الامرُ فلانًا: کے ساتھ رہنا۔ ۔۔۔ فیہ: کو خریدنا۔ نَشَّبَ ہُ فی کذا: کو میں چمٹانا، چسپاں کرنا۔ نَاشَبَ مُنَاشَبَةً ہُ الحربَ: سے کھلم کھلا لڑائی کرنا۔ اَنْشَبَ ہُ فی کذا: کو میں چمٹانا، چسپاں کرنا، کہا جاتا ہے انشب البازی مخالبہ فی الاَخیذة: بازی نے اپنے پنجے شکار میں چمٹا لئے۔ ۔۔۔ ہ الصائدُ: شکار کا جال میں پھنسنا۔ تَنَشَّبَ فیہ: میں پھنس جانا، کہا جاتا ہے۔ تَنَشَّبَ فی قلبہ حبُّ فلان: کے دل میں کسی کی محبت جاگزیں ہوگی۔ تَنَاشَبُوا: آپس میں چمٹنا، کہا جاتا ہے: تناشبوا حول الرسول: انہوں نے پیغمبر کے گرد بھیڑ کرلی۔ اِنْتَشَبَ فیہ: میں چمٹنا۔ ۔۔۔ الحطبَ: لکڑیاں اکٹھی کرنا۔ الناشِب (فا): تیروں والا، تیر انداز۔ الناشِبة: ناشب کا

مونث، تیرانداز لوگ۔ النَشَب (ن): درخت جن سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔ النَشِب: چمٹا ہوا چسپاں، پھنسا ہوا، گڑا ہوا، پکڑا ہوا۔ النُشْبَة (مص) و النُشَبَة: کام میں پھنس کر رہائی نہ پانے والا۔ نُشْبَةُ: بھیڑیے کا اسم علم النَشَّاب: بہت چمٹنے والا، تیر ساز، تیرانداز۔ رجل نَشَّاب و قوم نَشَّابَةٌ: تیرانداز مرد اور قوم۔ النُشَّاب واحد نُشَّابَة جمع نَشَاشِيب: تیر۔ المَنْشَب: چمٹنے کی جگہ۔ بُرْدٌ مُنَشَّب: تیر کی مانند دھاریدار چادر

۲۔ النَشَب و النَشَبة: جائداد منقولہ وغیر منقولہ، زمین اور مویشی۔

○ نَشِبَ ـَ نَشَبًا و نُشُبَةً و نُشُوبا في: سے لگا ہونا، سے جڑا ہونا، چمٹا ہونا، میں پھنس جانا، پہ جما ہونا۔ ـــ ب پرتوجہ کرنا، پر منحصر ہونا، موقوف ہونا۔ ـ في میں پھنس جانا، میں دخل دینا۔ ـــ : جنگ کا یکا یک لگ جانا، شروع ہو جانا، پھیل جانا۔ ما نشب یا لم ینشب: نہ ہچکچانا، نہ تذبذب میں پڑنا، نہ متامل ہونا، نہ تامل کرنا۔ نَشَّبَ و اَنْشَبَ ہ: سے بندھنا، پر چڑھنا، کو چپکانا، جوڑنا، کو لگانا، جڑنا، نَشَب: جائداد، سب کچھ، نشوب الحرب: جنگ کا یکا یک لگ جانا، شروع ہو جانا۔ مُتَنَشِّب: سخت اور شدید (معرکہ، جنگ)۔

نشج: نَشَجَ ـِ نَشْجًا و نَشِيجًا الباكي: رونے سے ہچکی بندھنا۔ ـــ ت القدرُ: ہانڈی کا کھدکھدانا۔ ـــ الضفدعُ: مینڈک کا ٹراتے وقت آواز دہرانا۔ ـــ المطربُ: گویے کا دو آوازوں کو علیحدہ کرنا اور وقفہ کرنا۔ النشج جمع اَنْشَاج: پانی بہنے کی جگہ، عبرةٌ نُشُجٌ: آواز دار نصیحت۔ النشيج: آواز۔

○ نَشَجَ ـِ نَشِيجًا: سسکیاں بھرنا یا لینا ہچکی لینا، ہکی بھرنا۔

نشح: نَشَحَ ـَ نَشْحًا و نُشُوحًا الرجُلُ: سیر ہو کر نہ پینا، سیر ہو کر پینا۔ النَشَّاح من الآنية: چھلکتا ہوا برتن۔ النُشُوح: تھوڑا پانی، النُشْح واحد نَشُوح: بدمست لوگ۔

نشد: ۱۔ نَشَدَ ـِ نَشْدًا و نِشْدانًا و نِشْدَةً الضَالَّةَ: گم شدہ کو ڈھونڈنا، آواز دیکر پوچھنا۔ ـــ الضالَّة: کو واضح کرنا۔ فلانا: کو پہچاننا۔ ـ هُ اللّٰهَ وبه: سے قسم لے کر پوچھنا۔ ـــ نَشْدًا الرجُلَ: سے اَنْشُدُكَ اللّٰهَ کہنا۔ نَشَدْتُكَ اللّٰه إلا فعلت: میں نے تم سے کوئی چیز طلب نہیں کی سوائے تمہارے فعل کے۔ نَشَدَهُ عَهْدَهُ او وعْدَهُ: کو اس کا عہد یا وعدہ یاد دلانا اور عہد یا وعدہ ایفائی کا خواہاں ہونا۔ عام لوگ جب هو ينشد فيه کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ نَاشَدَ مُنَاشَدَةً و نِشَادًا ہ: کو قسم دلانا۔ ـــ ہ الامرَ في الامر: کو قسم دے کر کسی کام کو کہنا۔ سے کی التجا کرنا۔ اَنْشَدَ الضالةَ: گم شدہ کے بارے میں پوچھنا، کو واضح کرنا اور کیلئے شہادت پیش کرنا۔ ـــ ہُ الشِعرَ: کو شعر سنانا۔ ـــ بالقوم: کی ہجو کرنا۔ ـــ زيدًا ولزيد: زید کو جواب دینا، کہا جاتا ہے: نَشَدتُهُ فَاَنْشَدَني او اَنْشَدَلي: میں نے پوچھا تو اس نے مجھے جواب دیا۔ تَنَشَّدَ الاخبارَ: چاہنا کہ لوگ ان خبروں سے واقف ہو جائیں۔ تَنَاشَدُوا الاخبارَ: ایک دوسرے کو شعر سنانا۔ اِسْتَنْشَدَهُ الشِعرَ: سے شعر پڑھنے کی درخواست کرنا۔ النَاشِد فا: طلب کرنے والا، تشہیر کرنے والا۔ النَاشِدُون: گم شدہ، اونٹوں کا پتہ لگا کر انہیں مالک تک پہنچانے والے۔ النَشْد عند العامة: مدح، تعریف، کہا جاتا ہے نَشَدَكَ و نِشْدَكَ اللّٰه الا فعلتَ: میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ یہ کام کرنا۔ النِشْدَة (مص): آواز۔ النَشَّاد: گم شدہ کی تلاش کرنے والا۔ النَشِيد: آواز کی بلندی۔ و النَشِيدَه جمع نَشَائد و الأُنْشُودَه جمع اَنَاشِيد: مجلس میں سنائی ہوئی نظم۔ نثر و نظم جسے ترنم سے پڑھا جائے۔

۲۔ النُشَادِر و النُوشادِر (ك): نوشادر (فارسی لفظ)

○ نَشَدَ ـُ نَشْدًا و نَشْدَةً و نِشدانًا ہ: کو مانگنا، ڈھونڈنا، کی تلاش کرنا۔ ـــ ہ ہ (مثلا اللّٰهَ) کو کی قسم دینا، سے قسم یا حلف لے کر یا کا واسطہ دیکر التجاء کرنا۔ نَاشَدَ ہ ان يفعل /ہ ہ: سے کو کرنے کی التجا کرنا۔ ـــ ہ ہ: کو خدا کی قسم دینا یا سے خدا کی قسم یا حلف لینا۔ اَنْشَدَ ہ: کو مانگنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ ـ ہ: کو گانا۔ ـ ہ ہ: کو نظم یا آیت سنانا۔ تَنَاشَدَ: ایک دوسرے کو نظمیں وغیرہ سنانا۔ اِسْتَنْشَدَہ: سے شعر یا آیت سنانے کی درخواست کرنا۔ نَشِيد و اُنْشُودَة جمع نَشَائِد و اَنْشَاد و اَنَاشِيد: گیت، حمد (باری تعالی) ترانہ۔ نَشِيدُ الأَنْشَاد یا نشيدُ الاناشيد: حضرت سلیمان علیہ السلام کا گیت، گیتوں کا گیت۔ النشيدُ الأُمَمي: بین الاقوامی گیت، نشيد حَمَاسِي: جمع ہونے کا گیت۔ نشيدٌ عسكري: سپاہیوں کا گیت، مارچ کا گیت، فوجی مارچ۔ نشيدٌ قومي او نشيدٌ وطني: قومی ترانہ۔ نَشِيدٌ لَيلِيٌّ: فغانِ نیم شبی، نغمہ شبینہ۔ نَشِيدٌ مَلَكي: شاہی ترانہ۔ مُنَاشَدَة: اصرار والی درخواست، تجدید و التجاء، اسم عام، درخواست یا اپیل، قسم سوگند یا قسم دینا یا سوگند دینا۔ اِنْشَاد: سنانا، سنائی جانے والی چیز۔ نغمہ سرائی۔ مَنْشُود: مانگی ہوئی، تلاش کی ہوئی، ڈھونڈی ہوئی، آرزو کی ہوئی، خواہش کی ہوئی، تمنا کی ہوئی، جسے حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کی گئی ہو (جیسے مقصد مدعا یا ہدف وغیرہ)۔ مُنْشِد: گانے والا۔

نشر: اـ نَشَرَ ـُ نَشْرًا الثوبَ: کپڑا پھیلانا۔ ـــ الخبرَ: خبر مشہور کرنا۔ ـــ الشئَ: کو بکھیرنا۔ ـــ الخشبَ: لکڑی چیرنا۔ ـــ عن المجنون او المريض: مجنوں یا بیمار پر منتر پھونکنا۔ ـــ ت الريحُ: بادل کے دن ہوا چلنا۔ ـــ ـُ نُشُورًا الشجرُ: درخت کا پتے لانا۔ ـــ تِ اوراقُ الشجر: درخت کے پتوں کا بڑھنا اور پھیلنا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کا بہار کی بارش کے بعد سرسبز ہونا۔ ـــ نَشْرًا و نُشُورًا اللّٰهُ الموتٰى: اللہ تعالٰی کا مردوں کو زندہ کرنا۔ ـــ و نَشِرَ الموتى: مردوں کا زندہ ہونا صفت نَاشِرُون، نَشِرَ ـــ نَشَرًات المواشي: مویشیوں کا رات کو پھیل کر چرنا۔ مویشیوں میں کھجلی کی بیماری پھیلنا۔ نَشَّرَ ا الثوبَ ونحوه: کپڑے وغیرہ پھیلانا۔ ـــ عن المريض او المجنون: بیمار یا مجنوں پر منتر پھونکنا۔ اَنْشَرَ اللّٰهُ الميّتَ: اللہ کا مردے کو زندہ کرنا۔ ـــ الارضَ: زمین کو پانی سے سیراب کر کے زندہ کرنا۔ تَنَشَّرَ الشئُ: پھیلنا۔ تَنَاشَرُو الثيابَ: کپڑے پھیلانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اِنْتَشَرَ الشئُ: پھیلنا۔ ـ النهارُ: دن لمبا ہونا، پھیلنا۔ ـ الخبرُ: خبر مشہور ہونا۔ ـــ ت الابلُ: اونٹوں کا متفرق ہونا، بکھر جانا۔ الرجُلُ: سفر شروع کرنا۔ اِسْتَنْشَرَ الخبرَ: خبر پھیلانے یا شائع کرنے کی درخواست کرنا۔ الناشِرة: الناشر کا مونث (ع ا) النَوَاشِر کا واحد جس کے معنی ہاتھ کے رگ پٹھے ہیں۔ النَشْر (مص): خوشبو یا صرف بو (کہا جاتا ہے: له نشرٌ طَيِّبٌ: اُس سے خوشبو آتی ہے)۔ نباتات اگنے کی ابتداء، خارش، سردار کے بغیر بکھری ہوئی قوم۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا نَشْرًا: وہ علیحدہ علیحدہ آئے۔ يومُ النَشْر: قیامت کا دن۔ النَشَر: سردار کے بغیر بکھری ہوئی قوم (کہا جاتا ہے: جاؤ و انشَرًا: وہ متفرق آئے)، پھیلا ہوا، کہا جاتا ہے۔ اللّٰهُمَّ اُضمم نَشَرِي: اے اللہ تعالٰی میرے متفرق کام اکٹھے کر دے۔ النَشْرَة جمع نَشَرات: نشر کا اسم مرۃ اشتہار، باد نسیم۔ النُشْرَة: افسوں منتر۔ النُشَارَة: لکڑی وغیرہ کا برادہ۔ النَشُور من الرياح جمع نُشُر: بادلوں کو پھیلانے والی ہوا۔

النُّشُور (مص): یومُ النشور: یوم القیامۃ۔ النَّشِیر ازار، کاٹ کر جمع کردہ کھیتی۔ المُنَشَّر (مدر میمی) کپڑے وغیرہ پھیلانے کی جگہ۔ المِنشار پنجہ دار لکڑی جس سے گیہوں وغیرہ کو بھوسے سے علیحدہ کرتے ہیں۔ (ح) حیلی ایک سمندری مچھلی اس کو ابو منشار بھی کہتے ہیں۔ جمع مناشیر آری۔ المَنشُور (مفع) شاہی فرمان، سرکلر، بڑے عالم پادری وغیرہ کا پیغام۔ المَنشُورَۃ منشور کا مونث، تخی شریف۔ (عورت)

۲۔ التَّناشِیر مدرسوں کے بچوں کی شکستہ تحریریں (اس کا واحد نہیں)

نَشَرَ ـُ نَشْرًا ہ کو پھیلانا، کھولنا، (جھنڈا) بلند کرنا۔ ـــ ـُ ہ (خوشبو) پھیلانا، کو بکھیرنا، نکالنا، چھوڑنا، کی نشر و اشاعت کرنا، (کتب، اشتہار وغیرہ) شائع کرنا، کی اشاعت کرنا، و پھیلانا۔ ـــ ـُ نَشْرًا و نُشُورًا ہ (مردہ) و زندہ کرنا۔ نَشَّر ہ کو پھیلانا، کھولنا۔ اَنشَرہ (مردہ) کو زندہ کرنا۔ تَنَشَّرَ پھیلایا جانا، کھولا جانا۔ پھیلنا۔ اِنتَشَرَ پھیل جانا، کھولا جانا، پھیلنا (جیسے خبر یا بیماری وغیرہ) پھیلنا، لمبا ہونا، وسیع ہونا، کشادہ ہونا، لہروں کا پھیلنا، منتقل ہونا، بکھرنا، پھیلنا، منتشر ہونا، پراگندہ ہونا، مختلف سمتوں میں جانا، گڑبڑ میں پڑنا۔ نَشْرُ الدعوۃ پراپیگنڈا، یوم النشر یوم قیامت۔ دارالنشر اشاعتی ادارہ۔ نَشْرۃ (پبلک) نوٹس، شائع شدہ کتاب، باضابطہ اعلان، رپورٹ، سرگزشت، کیفیت، تفصیل، اعلان، اشتہار، سرکلر، دستی اشتہار، ادارتی اشتہار، پمفلٹ، رسالہ، موقت الشیوع چیز (جیسے اخبار، رسالہ) (Periodical) حکم، فرمان (Ordinance, decree, edict) نشرۃ اخباریۃ یا نشرۃ الاخبار خبریں، (ریڈیو پر خبریں پڑھنا) نشرۃ دَوْرِیَّۃ ہفتہ وار، ماہوار یا سہ ماہی رسالہ، مجلّہ۔ نشرۃ اسبوعیہ ہفتہ وار رسالہ، اخبار، نیوز ریل News Reel یعنی روزانہ خبروں کی فلم۔ نشرات جَوِّیَّۃ: موسمی خبریں، موسمی رپورٹ۔ نشرۃ خاصۃ بالأسعار کیفیت نامہ (Prospectus)، قیمتوں کی فہرست۔ نشرۃ رسمیۃ: سرکاری کتاب بلٹین: اعلامیہ، سرکاری خبرنامہ (Bulletin) نشرۃ شہریۃ ماہوار مجلہ، کتاب، نشرۃ یومیۃ: (فوج) دن کا حکم۔ نَشَّار آرہ کش، لکڑیاں چیرنے والا، نِشَارۃ چیرنا (چیرنے کا عمل) نُشَارۃ لکڑی کا برادہ۔ نُشُور مردہ کو زندہ کرنا، قیامت۔ یوم النُّشُور قیامت کا

دن۔ مِنشار: آرہ، آری جمع مناشیر انتشار: پھیلنا، پھیلاؤ، بہاؤ، پھیلا ہوا ہونا۔ ناشِر: ناشر کتب، کتابیں، چھاپ کر شائع کرنے والا۔ مَنشُور: پھیلا ہوا، اعلان کیا ہوا، شائع شدہ، چیرا ہو جمع مَنشُورات و مَنَاشِیر: دستی اشتہار، پمفلٹ، سرکلر، کیفیت نامہ، اعلان، اشتہار، حکم، فرمان (Ordinane, decree, edict) منشور (مخروط مستوی)۔ مُنتَشِر: پھیلنے والا، پھیلا ہوا، دور تک پھیلا ہوا، تازہ، حالیہ، عام پھیلا ہوا، بھرا ہوا، رائج، عام رواج پذیر، اہم، نمایاں، بااثر۔

نشز: نَشَزَ ـُ نَشْزًا فی او عن مکانہ: سے بلند ہونا، رکنا۔ الرجلُ: اونچی جگہ پر جھانکنا، بیٹھے ہوئے کا اٹھنا۔ ـــ القومُ فی مجلسھم: مجلس میں لوگوں کا اٹھ جانا یا سمٹ جانا۔ ـــ ت نَفْسُہُ: گھبراہٹ سے کا دل دھڑکنا۔ ـــ نُشُوزًا بالقوم فی الخصومۃ: جھگڑنے کے لئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، تائید کرنا۔ ـــ ت المرأۃُ بزوجھا ومنہ و علیہ: عورت کا اپنے خاوند کا نافرمان ہونا اور اس سے نفرت کرنا صفت ناشِز و ناشِزۃ جمع نَوَاشِز۔ بعلُھا علیھا و منھا: خاوند کا عورت پر ظلم کرنا اور تکلیف دینا۔ ـــ ـِ نَشْزًا بقرنِہٖ: کو سینگ سے اٹھا کر پچھاڑ دینا۔ اَنشَزَ الشیئَ: چیز کو اس کی جگہ سے اٹھانا، بلند کرنا۔ ـــ اللہُ عظامَ المیت: اللہ تعالیٰ کا مردے کی ہڈیوں کو ان کی جگہ لیجانا اور ایک دوسرے سے جوڑنا۔ الناشِز (فا): اپنی جگہ سے ابھرا اور اٹھا ہوا عِرقٌ ناشِز: دھڑکنے والی رگ۔ النَّشْز (مص) جمع نُشُوز و النَّشَز جمع نِشاز و اَنشاز: اونچی جگہ۔ ـــ من الرجال قوی بڑے ڈیل ڈول کا موٹا آدمی۔ النَّشَاز: اونچی جگہ۔ النَّشزَۃ و النَّشِیزۃ من الدوابّ سواری جس کی پیٹھ پر زین یا سوار نہ ٹھہر سکے۔

نَشَزَ ـُ نُشُوزًا ب / علی / من (عورت کا) اپنے خاوند کی پرواہ نہ کرنا، خاوند کی نافرمان ہونا۔ شوہر کا بیوی پر ظلم کرنا۔ اَنشَزَ ہ کو دوبارہ زندگی دینا، میں جان ڈالنا، میں نئی روح پھونکنا۔ نَشز جمع انشاز اونچی جگہ یا زمین۔ نِشاز نااتفاقی، ناچاقی، نُشُوز خصومت، دشمنی، بیر، عداوت، لڑائی، جھگڑا، ناچاقی، نااتفاقی، نفرت، شوہر یا بیوی کی طرف سے خصوصاً بیوی کی طرف سے ازدواجی فرائض کی خلاف ورزی اور شوہر کی طرف سے اس پر ظلم۔ ناشِز ابھرا ہوا اونچا کیا ہوا، اٹھایا ہوا، اعصاب میں ارتعاش پیدا کرنے والا، کرخت، بے جوڑ، ناموزوں، ناموافق، سرکش،

نافرمان۔ ناشِزَۃ جمع نَوَاشِز: سرکش، نافرمان، عورت، لڑاکا عورت، بدمزاج عورت۔

نشص: ۱۔ نَشَصَ ـِ نُشُوصًا السحابُ: بادل کا اونچا ہونا۔ ـــ ت النفسُ: دل دھڑکنا۔ ـــ الصوفُ او الشَّعرُ: اون یا بال کا نکلنا اور جلد سے چمٹا ہوا ہونا۔ ـــ المرأۃُ عن زوجھا: بیوی کا خاوند کی نافرمانی کرنا اور اس سے نفرت کرنا صفت نَاشِص۔ ـــ تِ السِّنّ: دانت کا لمبا ہونا۔ ـــ الشیئَ: کو نکالنا۔ ـــ عن بلدہ: شہر یا ملک سے منقطع ہونا، پریشان ہونا۔ نَشَّصَ ہٗ: کو اونچا کرنا۔ اَنشَصَ ہ عن بلدہ ادبیتہ کو شہر یا گھر سے نکال دینا۔ تَنَشَّصَ لکذا: کیلئے اٹھنا اور تیاری کرنا۔ اَنشَصَ الشجرۃَ: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا۔ اِستَنشَصَتِ الریحُ السحابَ: ہوا کا بادل کو اٹھانا۔ النِّشاص و النَّشَاص جمع نُشُص و نَشَائِص: تہہ بتہ بادل، لشکر۔ النَّشُوص و النَّشِیص: کھڑا کیا ہوا نیزہ، بڑے کوہان والی اونٹنی۔

۲۔ نَشَصَ ـُ نُشُوصًا فلانًا: کو نیزہ مارنا۔

نشط: ۱۔ نَشَطَ ـُ نَشْطًا الحبلَ: رسی میں گرہ لگانا۔ ـــ العقدۃَ: گرہ کو مضبوط کرنا۔ ـــ الدلوَ من البئرِ: ڈول کو کنوئیں سے بغیر چرخی کے نکالنا۔ ـــ زیدًا: کو نیزہ مارنا۔ ـــ تہ الحیّۃُ: کو سانپ کا ڈسنا۔ ـــ ـِ نَشْطًا من المکان: جگہ سے نکلنا۔ ـــ من بلد الی بلد: ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جانا، کہا جاتا نَشَطَ بھم یُمْنَۃً و یُسْرَۃً: وہ انہیں دائیں بائیں لے گیا۔ نَشِطَ ـَ نَشَاطًا: چست ہونا، ہشاش بشاش ہونا۔ ـــ فی عملہ او الی عملہ: اپنے کام پر دوڑنا، دوڑ پڑنا۔ صفت ناشِط و نَشِیط۔ ـــ تِ الدابّۃُ: جانور کا فربہ ہونا۔ نَشَّطَ الحبلَ: رسی میں گرہ لگانا۔ ـــ ہٗ الی او فی عملہ: کو کام پر دوڑانا، کام میں چست بنانا۔ اَنشَطَ ہٗ: کو چست بنانا۔ ـــ الرجلُ: چست چالاک گھر والوں یا جانوروں والا ہونا۔ ـــ ت الحیّۃُ: سانپ کا کاٹنا۔ الحبلَ: رسی میں گرہ لگانا۔ ـــ العقدۃَ او العقالَ: گرہ کھولنا، جانور کو باندھنے والی رسی کھولنا۔ ـــ البعیرَ من عقالہ: اونٹ کو چھوڑنا، آزاد کرنا۔ ـــ الکلأُ الدابّۃَ: گھاس کا جانور کو موٹا کرنا۔ تَنَشَّطَ: چست ہونا، ہشاش بشاش ہونا۔ ـــ للعمل: چستی سے تیار ہو کر کام میں لگنا۔ ـــ ت الناقۃُ فی سیرھا: اونٹنی کا چلنے میں تیزی کرنا۔ ـــ المفازۃَ: بیابان کو چستی سے عبور کرنا۔ اِنتَشَطَ الحبلَ: رسی کو کھولنے کے لئے کھینچنا۔ ـــ الحبلُ: رسی کا کھل جانا۔ ـــ الشیئَ: کو مضبوط کرنا، چھیننا۔ ـــ فلانا الی کذا کو

کی طرف کھینچنا یا بلند کرنا۔ ـــ النَّشِیطَۃ: راستہ میں ہاتھ لگ جانے والا مال یا تک لیجانا۔ ـ الحیَۃُ فلانًا: کو سانپ کا ڈسنا۔ اِسْتَنْشَطَ الجلدُ: کھال کا جھری دار ہونا۔ النَاشِط (فا) چست، پھرتیلا، پھرنے والا جنگلی بیل، طریقٌ ناشطٌ: بڑی سڑک سے دائیں یا بائیں نکلنے والا راستہ۔ الناشِطۃ جمع ناشطات ونَواشِط: ناشط کا مونث۔ النواشط من المسائل: بڑے مسئلہ سے نکلتے ہوئے مسائل، اس کا واحد ناشط آتا ہے۔ النَشْط (مص): تیزی وعجلت سے ڈنک مارنا۔ النَشِیط جمع نِشاط ونَشاطَی: چست، پھرتیلا، چست و چالاک گھر والوں یا جانوروں والا۔ النَشِیطَۃ: نشیط کا مونث، حملہ آوروں کو راستہ میں مل جانے والا مالِ غنیمت، اونٹ جنہیں پکڑ کر یا تک لیجایا جائے۔ بئرٌ نَشُوطٌ: گہری تہہ والا کنواں۔ بئرٌ اَنْشاط و انشاط: کم گہرائی کا کنواں کہ ایک ہی بار کھینچنے سے ڈول باہر نکل آئے۔ الأُنْشوطَۃ جمع اَناشیط: گرہ جسے کھولنا آسان ہو۔ کہا جاتا ہے۔ ما عِقالُکَ بِاُنْشوطَۃٍ: تمہاری محبت (یا دوستی) کمزور نہیں کہ آسانی سے ختم ہو جائے (یا ٹوٹ جائے) المِنْشَط: بہت چست۔ المَنْشَط: خوش دلی، کہا جاتا ہے: فَعَلوُا ذلک علی المَنْشَط والمَکرَہ: انہوں نے یہ کام خوش دلی سے اور دل کی کام کے بارے میں ناپسندیدگی سے کیا۔

۲۔ النَّشُوط (ح): ایک قسم کی مچھلی۔

۞ نَشِطَ ـ نشاطاً: زندہ دل، بشاش، شگفتہ مزاج، پرزور، پرلطف، چست، پھرتیلا، تیز، خوش طبع، شگفتہ خاطر جاندار، تیز طرار، سرگرم، ہوشیار، شائق، خواہاں، متمنی، پرجوش، بہادر یا خوش باش ہونا۔ ـــ فی (کسی کام میں) ہمت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ ـــ الی (کے لئے، کی جانب) سرگرم اور پھرتیلا ہونا، ہمت اور سرگرمی سے کام کرنا۔ ـــ کے موڈ میں ہونا، کچھ کرتے ہوئے محسوس کرنا، کے بارے میں خوش ہونا، سرگرم ہونا، پرجوش ہونا، کسی کام میں شوق سے مشغول ہونا، پر سرگرمی سے توجہ کرنا، کا تیزی سے آغاز کرنا۔ نشط من عِقالِہ: کی بیڑیوں سے آزاد ہونا، آزاد ہونا۔ نَشَطَ ـ نَشْطًا ہ: رسی میں گرہ لگانا، رسی کو گرہ لگانا۔ نَشَّطَ و اَنْشَطَ ہ: کو ابھارنا، اکسانا، کو ایڑ لگانا، مہمیز کرنا، میں جان ڈالنا، کو ابھارنا، میں تحریک پیدا کرنا، ہیجان پیدا کرنا، کو تابکار بنانا۔ ـــ ہ: کو مضبوط کرنا، تقویت پہنچانا، میں جان ڈالنا، روح پھونکنا، کو تولنا، کو عطا کرنا، ہمت دینا، کو ہمت اور طاقت دینا، کی حوصلہ افزائی کرنا، کی ہمت بندھانا، کو جرأت دلانا (الی کچھ کرنے کی)۔ تَنَشَّطَ: بمعنی نَشِطَ۔ نَشِط: زندہ دل، بشاش، شگفتہ مزاج، پرزور، پرلطف، چست، پھرتیلا، تیز، خوش طبع، شگفتہ خاطر، تیز، ہیجان خیز، پرجوش، سرگرم، دوڑ دھوپ کرنے والا، منہمک، مصروف، مشغول، دلیر، جانباز، من چلا، مہم جو، باہمت، مستعد، زوردار۔ نَشْطَۃ: قوت، شوق سرگرمی، گرم جوشی۔ نَشاط: چستی، پھرتیلا پن، تیزی، زندہ دلی، شگفتہ مزاجی، جذبہ جوش، چستی، پھرتی، آمادگی، مستعدی، شوق، سرگرمی، گرمجوشی، لگن، دھن، جوش، ہمت، طاقت، کس بل، دم خم، مستعدی، سرگرم حرکت، جوش مستعدی، عمل، کام، چال، حرکت، عمل، طاقت، طاقت، زور، قوت، بل، قابلیت و صلاحیت اہلیت، توانائی، دم خم، زور، قوت، نہایت اہم طاقت، کسی فرد یا ادارے کی قوت کارکردگی۔ نشاط جوّی: ہوائی سرگرمی۔ نشاط اشعاعی: تابکاری۔ دو نشاط اِشعاعی: تابکار۔ صاحب نشاط: سرگرم، عدیم النشاط: ماند، سرد، پھیکا، سست، بے حرکت، بے عمل (سٹاک مارکیٹ)۔ نَشِیط جمع نِشاط: چست، پھرتیلا، تیز، زندہ دل، بشاش، شگفتہ مزاج، خوش باش، جاندار، تیز طرار، پرزور، پرلطف، شادمان، خوش، ہنس مکھ، ہیجان خیز، پرجوش، دوڑ دھوپ کرنے والا، مصروف، مشغول، منہمک، سرگرم، توانا، طاقت ور، باہمت، مستعد۔ ـــ ل: کے بارے میں خوش، مسرور، سرگرم، پرجوش، کے لئے سرگرمی سے وقف کار، الجنس النشیط: زیادہ طاقت ور جنس یا صنف۔ اُنْشوطَۃ: گرہ، ڈیڑھ گرہ جو کھینچنے سے تنگ ہوتی ہے (Slipknot) کمان، پھندا۔ ناشِط بمعنی نَشِط: مَنْشَط: خوشگوار چیز۔ مُنَشِّط: مہمیز (کیلئے) تحریک محرک یا مہیج، شوق، جذبہ، قوت، تیزی حرکت، کا زور تحریک، اشتعال، ابھارنے والی چیز۔

نشظ: نَشَظَ ـ نُشوظًا النباتُ: نباتات کا نمودار ہونا۔

نشع: ۱۔ نَشَعَ ـ نَشْعًا الرجلُ: سکی لینا۔ ـ الطیبَ: خوش بو سونگھنا۔ ـــ فلانًا الدواءَ: کے منہ میں دوا ڈالنا۔ ـ ہ الکلامَ: کو کلام کی تلقین کرنا۔ ـ نُشوعًا: قریب الموت ہو کر نجات پانا۔ اَنْشَعَ ہُ الدواءَ: کے میں دوا ڈالنا۔ ـ ہُ الکلامَ: کو کلام کی تلقین کرنا۔ ـ ہُ بشربِہٖ: کو پانی پلانے میں مدد کرنا۔ اِنْتَشَعَ: ناک میں دوا ڈالنا۔ الناشِع (فا) ابھرا ہوا۔ النَشَع: خراب ... کا پانی۔ الصَنْشوع ... نسوار ... میں ڈالی جانے والی دوا ...

المِنْشَع والمِنْشَعۃ: وہ برتن جس میں ناک یا منہ میں ڈالنے والی دوا اور رکھی جاتی ہے۔ نسوار کی ڈبیہ۔

۲۔ نَشَعَ ـ نَشْعًا و اِنْتَشَعَ الشیَ: چیز کو سختی سے کھینچنا۔ النُشاعۃ: ہاتھ سے نکال کر پھینکی ہوئی چیز۔

۳۔ نُشِعَ نَشْعًا بکذا: کا مشتاق ہونا، فریفتہ ہونا صفت مَنْشوعٌ بہ۔

۞ نَشَعَ ـ نَشْعًا ہ: کو چیرنا، پھاڑنا، چاک کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ انتشع: مندرجہ بالا معانی۔ نَشْع: رسنے والا پانی، رس کر آنے والا پانی وغیرہ مُنْشَع: تر اور تر بتر، سیلی (زمین) گیلا، بھیگا ہوا، تر۔

نشغ: ۱۔ نَشَغَ ـ نَشْغًا ہُ الکلامَ: کو کلام کی تلقین کرنا اور کلام سکھانا۔ ـــ الصبیَ: بچے کے منہ میں دوا ٹپکانا۔ ـــ الماءَ: روک سے پانی پینا۔ ـ الرجلُ: سسکی لینا یہاں تک کہ بیہوشی کے قریب ہو جانا۔ نُشِغَ الصبیُ: بچہ کے منہ میں دوا کا ڈالا جانا۔ ناشَغَ الکلامَ: کلام سمجھنا اور سیکھنا۔ اَنْشَغَ ہُ الکلامَ: کو کلام سمجھانا، کی تلقین کرنا۔ تَنَشَّغَ: سسکی لینا یہاں تک کہ بے ہوشی کے قریب ہو جانا۔ ـــ و انتشغ الکلامَ: کلام سمجھنا، سیکھنا۔ النَشْغَۃ جمع نَشَغات: موت کے وقت سکی، لمبی سانسوں میں سے ایک سانس۔ النَشوغ: بچہ یا مریض کے منہ یا ناک میں ٹپکانے والی دوا۔ نسوار۔ المِنْشَغ و المِنْشَغۃ: برتن جس میں منہ اور ناک میں ٹپکانے کی دوا رکھی جاتی ہے۔

۲۔ نَشَغَ ـ نَشْغًا الماءُ: پانی کا بہنا۔ اَنْشَغَ عنہ: سے علیحدہ ہونا۔ الناشِغ جمع نُشَّغ م ناشِغۃ جمع نَواشِغ وناشغات (فا)، النَواشِغ: وادی میں پانی بہنے کے راستے۔

۳۔ نَشَغَ ـ نَشْغًا ہُ بالرمح: کو نیزہ مارنا

۴۔ نُشِغَ بالشیَ: کا مشتاق ہونا صفت مَنْشوغٌ بہ

نشف: ۱۔ نَشَفَ ـ نُشْفًا الثوبُ العرقَ والحوضُ الماءَ: کپڑے کا پسینہ کو اور حوض کا پانی کو جذب کر لینا۔ ـــ الماءُ فی الارض: پانی کا زمین میں جذب ہونا۔ ـــ نَشْفًا الماءَ: پانی کو چیتھڑے وغیرہ سے پونچھنا خشک کرنا۔ نَشِفَ ـ نَشَفًا الثوبُ العرقَ او الحوضُ الماءَ: کپڑے کا پسینہ کو اور حوض کا پانی کو جذب کر لینا۔ ـــ الماءُ فی الارض: زمین میں پانی کا جذب ہونا۔ ـــ ت البئرُ: کنویں کا پانی ختم ہونا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا خشک ہونا۔ نَشَّفَ الماءَ: پانی کو جذب کرنا۔ ـــ ت الناقۃُ: اونٹنی کا بچہ پیدا ہونے کے قریب زمانہ میں تھنوں کا کبھی بھرا ہوا ہونا اور کبھی خشک ہونا۔ صفت مُنَشِّف ... نَشَّفَ الثوبُ العرقَ

کپڑے کا پسینہ کو جذب کر لینا۔ ـــ الرجُلَ کپڑے کے ٹکڑے وغیرہ سے پانی کو بدن سے پونچھنا۔ اِنْتَشَفَ الوسخَ ونحوهُ: میل کچیل گندگی وغیرہ کو پونچھ کر دور کرنا۔ الخبزُ الناشِفُ عند العامة: خشک روٹی۔ النَشَف۔ پانی کا جذب ہونا۔ النُشْفَة (بتثلیث النون) والنَشَفة جمع نَشَف ونِشَف ونِشَف ونُشَف ونِشاف: جھاواں۔ النُشَافة والنُشَافة: برتن میں باقی رہنے والی تھوڑی چیز۔ النَشْفة والنَشَّافة: پانی پونچھنے کا کپڑا۔ جھاڑن۔ ارضٌ نَشِفَةٌ: پانی جذب کر لینے والی زمین۔ النُشافة: جذب شدہ پانی۔ المِنْشَفة جمع مَنَاشِف: تولیہ۔

۲۔ نَشَفَتِ الناقةُ: اونٹنی کے دودھ کا جھاگ والا ہونا۔ اَنْشَفَ ہٗ: کو جھاگ والا دودھ پلانا۔ اِنْتَشَفَ: جھاگ والا دودھ پینا۔ النُشْفة جھاگ جو دودھ کے وقت دودھ پر آ جاتی ہے۔، ہانڈی سے گرم گرم نکالی ہوئی چیز۔ النُشافة بمعنی النُشْفة۔

○ نَشَفَ ـُ نَشْفًا ہ کو جذب کرنا، چوسنا، نَشِفَ ـَ نشفاً: خشک ہونا۔ نَشَّفَ ہ کو خشک کرنا، پونچھ کر خشک کرنا، رگڑ کر خشک کرنا، نَشَفَ ریقَهُ: کوشش کرنا، زور لگانا، جدوجہد کرنا، سخت محنت کرنا، کو دق کرنا، تنگ کرنا، کا ناک میں دم کرنا، کو جان بوجھ کر چھیڑنا۔ تَنَشَّفَ بمعنی نَشِفَ نیز پونچھ کر خشک ہونا، خشک ہونا۔ نَشْف سوکھا ہوا ہونا، سوکھنا، خشک ہونا، سکھانا، خشک کرنا، نَشَف سوکھا ہوا ہونا، سوکھنا، خشک ہونا، سکھانا، خشک کرنا۔ نَشَّاف: بلاٹنگ پیپر (Blotting paper) جاذب۔ نَشَّافة: سیاہی چوس، بلاٹنگ پیپر کی شیٹ، بلاٹنگ پیڈ (Bloting pad) تولیہ۔ مِنشَفة جمع مَناشف: تولیہ، صفائی کا چیتھڑا، دستپاک، رومال، تنشیف خشک کرنا۔ ناشِف: سکھایا ہوا، رطوبت نکالا ہوا، خشک کیا ہوا، خشک، سخت۔

نشق ۱۔ نَشِقَ ـَ نَشْقًا ونَشَقًا الریحَ: ہوا یا بو سونگھنا۔ اَنْشَقَ ہٗ المِسكَ ونحوهُ: کو مشک وغیرہ سونگھانا۔ ـــ ہٗ النَشُوقَ: کو نسوار سونگھانا۔ تَنَشَّقَ الماءَ فی انفه: ناک میں پانی ڈالنا۔ ـــ الریحَ او النَشُوقَ: ہوا یا بو یا نسوار سونگھنا۔ اِنْتَشَقَ الماءَ فی انفه: پانی ناک میں ڈالنا۔ اِسْتَنْشَقَ الماءَ فی انفه: ناک میں پانی ڈالنا۔ ـــ الریحَ او النَشُوقَ ہوا یا نسوار سونگھنا۔ النَشْق والنَشَق سونگھنا، کہا جاتا ہے۔ رائحة مکروهةُ النَشَق: ناگوار بو۔ النَشُوق: نسوار، سونگھنے کی دوا۔ المِنْشَق جمع مَنَاشِق: ناک۔ المِنْشَقَة نسوار کی ڈبیا۔

۲۔ نَشِقَ ـَ نَشْقًا و نَشَقًا فی الحِبالةِ: پھندے میں پھنسنا۔ اَنْشَقَ الظبیَ فی الحبالة: ہرن کو جال میں پھنسانا، کہا جاتا ہے۔ اَنْشَقَتْهُ الحبالةُ: پھندے نے اسے پھنسا لیا۔ النَشِق: کسی کام میں پھنس کر چھٹکارا نہ پانے والا۔ النُشْقة جمع نُشَق: بکری وغیرہ کی گردن کا پٹہ۔

○ نَشِقَ ـَ نَشْقًا ونَشَقًا ہ کو سونگھنا۔ باس کھینچنا، ناک سے سڑکنا، ناس لینا، اندر کو سانس لینا، کھینچنا، کو ناک میں لیجانا، زور سے سانس لیکر اندر پہنچانا۔ نَشَّقَ و اَنْشَقَ ہ کو کچھ دینا، کو کچھ سونگھانا، کو کچھ اندر پہنچوانا۔ تَنَشَّقَ و اِنْتَشَقَ: سانس لینا، سانس اندر کو کھینچنا۔ ـــ ہ کو زور سے سانس لیکر اندر پہنچانا، کو ناک میں لیجانا۔ اِنْتَشَقَ الهواء تازہ ہوا لینا اِسْتَنْشَقَ بمعنی نَشِقَ نیز اِسْتَنْشَقَ ہ کا تجسس کرنا، کو تلاش کرنا، بھانپ لینا، نَشْق و تَنَشُّق و اِسْتِنشاق: جذب کرنا، سانس لینا، سانس اندر کو کھینچنا، کش لگانا۔ نَشُوق ونُشُوق ناس، نسوار۔ تنشیقة نسوار کی چٹکی۔

نشل ۱۔ نَشَلَ ـُ نُشُولاً الرجُلُ: آدمی کا دبلا ہونا۔ ـــ ت الفخذُ: ران کا دبلا ہونا۔ ـــ ـِ نَشْلاً الشیءَ: چیز کو جلدا چک لینا، چھین لینا۔ ـــ الخاتمَ: انگوٹھی نوچنا، جھٹکا دیکر کھینچنا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو بغیر چمچے کے ہاتھ سے نکالنا، گوشت بغیر مسالہ کے پکانا۔ اَنْشَلَ اللحمَ من القدرِ: گوشت کو ہانڈی سے نکالنا۔ ـــ ماعلی العظم بفیه: منہ سے ہڈی پر سے گوشت چھڑا کر کھانا۔ اِنْتَشَلَ اللحمَ من القدرِ: گوشت کو ہانڈی سے نکالنا ـــ ما علی العظم بفیه: منہ سے ہڈی پر سے گوشت چھڑا کر کھانا۔ النَشْل (مص): بغیر مسالہ پکایا ہوا گوشت۔ النَشَّال: ہانڈی سے گوشت کو بغیر چمچے کے ہاتھ سے نکالنے کا عادی۔ النَشِیل: کنویں سے پہلا نکالا ہوا پانی، عام لوگ کہتے ہیں ماء نَشْل: کنویں سے پہلا نکالا ہوا پانی، تھن سے تازہ نکالا ہوا دودھ، بغیر چمچ ہاتھ سے ہانڈی میں سے نکالا ہوا گوشت، بغیر مسالہ کے پکایا ہوا گوشت، پتلی تلوار۔ المِنْشَل والمِنْشال جمع مَناشِل: گوشت نکالنے کی کنڈی دار سیخ۔ المَنْشَلة انگلی کا وہ حصہ جو انگوٹھی کے نیچے ہو۔

۲۔ نَشَلَ ـُ نَشْلاً تِ الحیةُ الرجُلَ: سانپ کا آدمی کو ڈسنا۔

○ نشل ـُ نَشْلاً ہ کو لیجانا، چھیننا، چرانا، چوری کرنا۔ ـــ ہ: کو خطروں مشکلات وغیرہ سے نکالنا، آزاد کرانا، چھڑانا، بچانا۔ اِنْتَشَلَ نکالنا، اٹھانا، اوپر کی طرف بلند کرنا، (تباہ شدہ جہاز کے لوگوں کو) جمع کرنا اٹھا کر کھڑے کرنا، کو بچانا، چھڑانا۔ نَشَّال: جیب تراش نَشَّال: جیب تراش۔

نشم نَشِمَ ـَ نَشَمًا الثورُ: بیل کا سیاہ سفید داغوں والا ہونا صفت نَشِم نَشَّمَ اللحمُ: گوشت کا بگڑ کر بدبودار ہونا۔ ـــ اللهُ ذکرَ فلان: اللہ تعالیٰ کا کسی کے ذکر کو بلند کرنا، کو شہرت دینا۔ ـــ ت الارضُ: زمین سے پانی کا نکلنا۔ ـــ فی فلان: کی بدگوئی کرنا، کو طعن کرنا۔ ـــ فی الشرّ: شرارت میں پڑنا۔ ـــ فی الامر: کام شروع کرنا۔ تَنَشَّمَ فی الامر: کام شروع کرنا۔ ـــ منهُ علماً: سے علم حاصل کرنا، کہا جاتا ہے: یدی نَشِمَةٌ من الجبن ونحوهِ: میرے ہاتھ میں پنیر وغیرہ سے بدبو لگ گئی۔ النَشَم (ن): وہ درخت جس سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔ المَنْشَم: ایک قسم کی خوشبو۔ المُنْشِم: متعفن سیاہ رنگ کا پھل، ایک قسم کی خوشبو، مَنْشِم: ایک عطر فروش عورت کا نام جس کے عطر کو لگانے سے لوگوں کے درمیان جنگ تیز ہو جاتی تھی۔ چنانچہ وہ برائی کی مثل بن گئی کہا جاتا ہے: اشام من عطر مَنْشِم: منشم کے عطر سے زیادہ منحوس۔

نشو نَشِیَ یَنْشَی نَشْوًا ونَشْوةً ونِشْوةً ونُشْوةً: نشہ میں ہونا، بدمست ہونا، کہا جاتا ہے: نَشِیَ من الشراب: وہ شراب سے بدمست ہو گیا۔ الخبرَ: خبر دریافت کرنا۔ ـــ نَشْوةً ونِشوةً ونُشْوةً الریحَ: ہوا سونگھنا۔ نَشَّی الثوبَ: کپڑے کو کلف دینا۔ تَنَشَّی وانْتَشَی: نشہ میں ہونا۔ الریحَ: ہوا کو سونگھنا۔ اِسْتَنْشَی الریحَ: ہوا کو سونگھنا۔ ـــ الخبرَ: خبر دریافت کرنا۔ النَشا جمع انشاء: عمدہ خوشبو، بو۔ ـــ والنَشاء: نشاستہ۔ النَشاوِیة (ط) نشاستہ اور چینی سے تیار کیا ہوا کھانا۔ النَشْوة: بو، اسم مرة، بدمستی یا مستی کی ابتداء۔ النِشْوة: پہلی خبر۔ النَشْوان م نَشْوی جمع نَشَاوَی: بدمست۔ النَشْیان: سب سے پہلے خبر کو دریافت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ فلانٌ نشیانٌ للاخبار او بالاخبار فلاں شخص سب سے پہلے خبر دریافت کرنے والا ہے۔ النِشْیَة جمع نَشَایا: بو۔

۲۔ نَشِیَ یَنْشَی نَشْوةً ونِشْوةً ونُشْوةً بالشیء: کو یاد کرنا۔

۳۔ النَشا جمع نَشًا: خشک درخت۔

○ نِشان و نیشان جمع نَیاشین: نشان، مقصد، منزل، مقصود، مطمع نظر، ہدف، تمغہ، عروسی پوشاک۔

نَشْنَجِي ونَشَانِجي: نشانہ باز، اچھانشانہ باز، بڑانشانہ باز۔ نِشَنْكَاه: بندوق کی شست کی مکھی۔ نَشْنَشَ: چست و چالاک ہونا، پھرتیلا ہونا، ذہین ہونا، تیز فہم ہونا، سرگرم ہونا، سوں سوں کرنا، سنسنانا، بلبلے اٹھانا۔ تَنَشْنَشَ: چست وچالاک ہونا پھرتیلا ہونا، ذہین ہونا، اصلی حالت پر آنا، شفا پانا، پانا۔

نشو ونشي: نَشِيَ يَنْشَى نَشْوًا و نُشُوَةً و نِشْوَةً: مدہوش ہونا مست ہونا، متوالا یا مخمور ہونا یا ہو جانا، بدمست ہونا یا ہو جانا۔ نَشَّى ٥: کپڑے کو کلف دینا۔ إنْتَشَى: مدہوش ہو جانا، مخمور ہو جانا، متوالا ہو جانا۔ إسْتَنْشَى ٥: کو سونگھنا، (بادِ سحر یا بادِ نسیم)۔ جذب کرنا، سے لطف اندوز ہونا۔ نَشْوَة: نکہت، مہکار، خوشبو، عطر، پھولوں کی باس، ست، چھلیل، نشہ، سرشاری، بدمستی، بے خودی شراب خوری، مستی، بدماغی انتشار، بے ہوشی، حالت غشی۔ نَشْوَةُ الطَّرَبِ: سرمستی، وجد، جوش، کمال مسرت، فخر و ناز، خوشی، ولولہ، گہری دلچسپی۔ کیف، حد درجہ خوشی، غایت مسرت، نشاً: ست، خوشبو، نشاستہ، کلف، ماوا۔ نَشَاء: نشاستہ، کلف، ماوا۔ نَشَوِي: نشاستے والا، جمع نشویات: نشاستہ دار خوراک۔ نَشْوَان م نَشْوَى جمع نَشَاوَى نشہ میں، مدہوش، مخمور، متوالا، پے ہوئے، وجد میں آیا ہوا، نازاں، خوش، بہت خوش، انتشاء: سرشاری، نشہ، بے خودی، بدمستی۔

نص : ۱۔ نَصَّ ـُ نَصًّا الشيءَ: کو بلند کرنا، ظاہر کرنا۔ ــ الحديثَ: حدیث کی سند بیان کرنا۔ ــ المتاعَ: سامان کو ایک دوسرے پر رکھنا۔ ــ العروسَ: دلہن کو چھپرکھٹ پر بٹھانا ــ فلانٌ عُنُقَهُ: گردن اونچی کرنا۔ ـ الشيءُ: ظاہر ہونا۔ ـ الرجُلَ: کا مسئلہ پوری طرح دریافت کرنا۔ الناقةَ: اونٹنی کو تیز ہانکنا۔ ــ للشي: کو ہلانا ــ نِصِيصًا الشواءُ علی النار: گوشت کا آگ پر تلتے ہوئے سوں سوں کرنا۔ ــ ت القِدرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ نَصَّصَ المتاعَ: سامان ایک دوسرے پر رکھنا۔ ــ فلانٌ: سند بیان کرنے میں مبالغہ کرنا۔ ــ وناصَّ مُنَاصَّةً غريمَهُ: قرضدار سے جھگڑا اور اسے بہت تنگ کرنا۔ تَنَاصَّ القومُ: قوم کا بھیڑ کرنا۔ إنْتَصَّ الشيءُ: بلند ہونا، سیدھا کھڑا ہونا۔ ــ ت العروسُ: دلہن کا چھپرکھٹ پر بیٹھنا یا حجلہ عروسی میں بیٹھنا۔ ــ الرمحُ: نیزہ کا تنگ ہونا۔ النصّ (مص) جمع نُصُوص: مصرح کلام۔ ــ من الكلام: ایسا کلام جو صرف ایک معنی رکھتا ہو اور اس میں تاویل کی گنجائش نہ ہو۔ ــ من كل شي: انجام، انتہاء۔ النَصَّة: اسم مرة۔ چڑیا۔ النُصَّة جمع نُصَص ونِصاص: پیشانی پر آئے ہوئے بال۔ النَصّاص: ناک ہلانے والا۔ النَصِيص مص: نصيصُ القوم: لوگوں کی تعداد۔ المَنَصَّة: حجلہ عروسی، دلہن کا چھپرکھٹ۔ المِنَصَّة جمع مِنَاص: دلہن کو بٹھانے کی کرسی، چبوترہ، پیوند لگے ہوئے کپڑے۔ روندے ہوئے فرش کہا جاتا ہے: وُضِع فلانٌ علی المِنَصَّة: اس کی بے عزتی کی گئی۔ المَنْصُوص: مفع المنصوص عليه: معین، مقرر۔

۲۔ نَصْنَصَ البعيرُ: اونٹ کا دونوں زانوں زمین پر ٹکا کر اٹھنے کیلئے ہلنا۔ ــ الشيءَ: کو ہلانا۔ ــ في مشيه: چلنے میں جھومنا۔ حيّةٌ نَصْناصٌ: بہت حرکت کرنے والا سانپ۔

نَصَّ ـُ نَصًّا علی: کو مقرر کرنا، کی حدود قائم کرنا، کی شرط لگانا، کا اہتمام کرنا، کو مہیا کرنا، مشروط قرار دینا۔ ــ علی /عن: کی صراحت کرنا، کی تعیین کرنا، کی تفصیلات دینا، کو معین کرنا۔ ــ علی: کا معین معنی بیان کرنا، کو ممیز کرنا، واضح کرنا۔ ــ ٥: کا متن معین یا مقرر کرنا، (خط وغیرہ) مرتب کرنا، لکھنا، ترکیب دینا، کو ترتیب دینا، کا انبار لگانا، کا تہ بہ تہ ڈھیر لگانا، کو نصب کرنا، کی صف بندی کرنا۔ نَصّ جمع نُصُوص: متن، انتخاب الفاظ، الفاظ کی بندش، طرز ادا، طرز بیان، کسی خاص طرز کا بیان یا روایت، عبارت، عبارت یا کتاب کا کوئی حصہ، لفظ، کلمہ، تقریر، قول، مقولہ، جملہ، فقرہ، جزو کلام، جزو جملہ، طرز کلام، انداز بیان، بات مثل، کہاوت، پر معنی مقولہ، دفعہ، شرط، اظہار، اسلوب اظہار، زبان، طرز تحریر، انداز بیان، اسلوب، اصطلاح، پیرایہ، قول و قرار، معاہدہ، شرط، ترتیب، اعلان، تجلی، انکشاف، ظہور، شہادت، گواہی، ثبوت۔ بِنَصِّهِ: لفظ بہ لفظ، حرف بحرف، بعینہ، بِنَصِّهِ وفَصِّهِ: انہی الفاظ میں، لفظی، واقعی، سچ سچ، ٹھیک ٹھیک، ہو بہو، من وعن، ایسے ہی۔ نَصًّا ورُوحًا: الفاظ اور حقیقی مقصد دونوں کی پابندی کرنے والا۔ نُصَّة جمع نُصَص: پیشانی کے بال۔ مِنَصَّة جمع مِنَصَّات و مَنَاصّ: چبوترا، شہ نشین، سٹیج، پلیٹ فارم، منبر، کمرے کے اطراف میں نشستوں کا سلسلہ، عروسی مسند، ایزل، ٹکٹکی (Easel)، مِنَصَّةُ الحُكم: اقتدار کا منصب، مقام، درجہ۔ مِنَصَّةُ الخطابة: منبر Rostrum۔ تَنْصِيص: اقتباس، قول۔ علامات التنصيص: واوین Quotation marks ("......")۔ منصوص عليه: مقرر، معین، مشروط، لکھا ہوا، مہیا یا فراہم شدہ۔

نصا: نَصَا ـ نَصْوًا ٥: کے پیشانی کے بال پکڑنا۔

نصب: نَصَبَ ـِ نَصْبًا الشيءَ: کو بلند کرنا، کھڑا کرنا، کو رکھنا، جڑنا، لگانا، دھرنا، بٹھانا، نصب کرنا۔ ــ الكلمةَ: کلمہ پر علامت نصب لگانا یا اسے منصوب پڑھنا۔ ــ الاميرُ فلانًا: امیر کا کسی کو عہدہ پر فائز کرنا۔ ــ له رأيًا: کو رائے دینا۔ ــ له الشرَّ: کیلئے کینہ یا بدباطنی ظاہر کرنا۔ ــ لفلان: سے دشمنی رکھنا۔ ــ الشجرةَ: زمین میں درخت لگانا۔ ــ له الحربَ: کیلئے لڑائی کی بنیاد رکھنا۔ ــ هُ المرضُ او الهمُّ: کو بیماری یا غم کا تھکانا یا دردمند کرنا۔ نَصِبَ ـَ نَصَبًا: تھکنا۔ ــ في الامر: کام میں کوشش کرنا۔ نَصَّبَ الشيءَ: کو رکھنا، بلند کرنا، کہا جاتا ہے: نَصَّبَتِ الخيلُ آذانَها: گھوڑوں کا کان کھڑے کرنا۔ ــ الاميرُ فلانًا: کو کسی منصب پر فائز کرنا۔ ناصَبَ مُنَاصَبَةً هُ: سے دشمنی کرنا، کا مقابلہ کرنا۔ ــ هُ الحربَ او العداوةَ: سے لڑائی کا اعلان کرنا، پر دشمنی ظاہر کرنا۔ أَنْصَبَ هُ: کا حصہ مقرر کرنا، کو تھکانا۔ ــ هُ المرضُ: کو بیماری کا دردمند کرنا۔ تکلیف دینا۔ ــ الحديثَ: حدیث کی سند بیان کرنا۔ ــ السكينَ: چھری میں دستہ لگانا۔ تَنَصَّبَ: کھڑا ہونا۔ ــ الغبارُ ونحوهُ: گرد و غبار کا بلند ہونا۔ تَنَاصَبُوا الشيءَ: چیز کو آپس میں بانٹ لینا۔ إنْتَصَبَ: کھڑا ہونا، بلند ہونا۔ ــ الطاهي: پکانے والے کا ہانڈی چڑھانا۔ ــ الحرفُ: حرف پر زبر ہونا۔ الناصب (فا) جمع نَوَاصِب: تیز چلنے والا۔ ــ عند النحاة: نصب دینے والا عامل۔ همٌّ ناصِبٌ: تھکا دینے والا غم۔ النَّصْب (مص): کھڑا کیا ہوا جھنڈا، بلا، بیماری، نتیجہ، غرض۔ ــ عند النحاة: اعراب کی ایک قسم۔ واحد نَصْبَة (ز) گاڑنے جانے والے پودے۔ نَصْبُ العَرَب: حدی سے مشابہ ایک راگ۔ النُصْب: بیماری، بلا۔ ــ جمع انصاب: گاڑی ہوئی چیز کھڑی کی ہوئی کوئی چیز۔ (کہا جاتا ہے: هذا نُصْبَ عيني: یہ میری آنکھ کے سامنے ہے۔) بت۔ النِصب: حصہ۔ النُصُب: بیماری، بلا، نصاب کی جمع، حصہ، ہر وہ چیز جو علامت مقرر کی جائے۔ ــ جمع انصاب: کھڑی کی ہوئی چیز۔ بت۔ مورتی، مجسمہ۔ الأَنْصَاب: پتھر جو جاہلیت میں کعبہ کے گرد کھڑے کئے گئے تھے اور ان پر غیر اللہ کیلئے جانور ذبح کئے جاتے تھے۔ النَصَب (مص): تھکن، تھکاوٹ، محنت، مشقت، جانفشانی، جمع انصاب: نصب کیا ہوا نشان۔ النَصِب: بیمار، درد میں مبتلا، النُصْبَة جمع نُصَب: راستہ بتانے والا ستون، نشان راہ۔ النَصْبَة: اعراب میں نصب کی

علامت. گاڑنے کیلئے پودے، نصب کا اسم مرة۔ النِّصْبَة: گاڑنے کی نوعیت۔ النِّصاب جمع نُصُب: اصل، مرجع، سورج ڈوبنے کی جگہ، ہر چیز کا اول، چھری کا دستہ۔ ـــ القانونی: کورم (ارکان کی وہ تعداد جو جلسہ کیلئے ضروری ہو۔) لازمی تعداد (Quorum) لنشاب: ہر کام میں خود گھسنے والا۔ ـــ عند العامة: ٹھگ، دھوکے باز، فریبی، عیار۔ الأنْصَب م نَصْباء جمع نُصْب: کھڑے سینگوں والا۔ ناقةٌ نَصْباء: ابھرے ہوئے سینے والی اونٹنی۔ النصیب جمع أنْصِبَة و أنْصِباء و نُصُب: حصہ۔ هذا نصیبي: یہ میرا حصہ ہے۔ ضرب فلانٌ بنصیب: فلاں نے حصہ جیت لیا، اس سے ہے ـــ "الیانصیب" عند السوریین: لاٹری (lottery) پھندا، حوض۔ المنصبة: النصائب کا واحد ہے۔ النصائب: وہ پتھر جو حوض (تالاب) کے گرد لگائے جاتے ہیں۔ الأناصیب و التناصیب: نشانات راہ۔ المَنْصِب جمع مَناصِب: اصل، مرجع، حسب و شرافت، مقام، درجہ، عہدہ، رتبہ، منصب۔ لفلانٍ مَنْصِبٌ: فلاں شخص بلند رتبہ ہے۔ مناصبُ البلاد عند اهل لبنان لقدماء: حکام و سرکردہ شخصیات۔ المِنْصَب جمع مَناصِب: تین پایوں والا لوہے کا چولھا۔ المَنْصَبَة: جدوجہد، محنت۔ عیشٌ ذو مَنْصَبة: تھکا دینے والی زندگی۔ المُنَصَّب مفع: انسان مُنَصَّبٌ: خوبصورت ترتیب والا دانت۔ المَنْصُوب (مفع) زبر والا لفظ۔ المَنْصُوبَة: منصوب کا مؤنث، حیلہ، کہا جاتا ہے: سوّى له مَنْصُوبةً: اس نے اس کے لئے ایک حیلہ ترتیب دیا۔

نَصَبَ ـ نَصْبًا ہ: کو تعمیر کرنا، نصب کرنا، رکھنا، اونچا کرنا، بلند کرنا، اٹھانا، تیار کرنا، تیار رکھنا، لیس کرنا، (خیمہ) لگانا، نصب کرنا، (جھنڈا) لگانا، اونچا کرنا، اٹھانا (درخت) لگانا، (توپ) نصب کرنا۔ ـــ کسی عہدہ یا منصب پر فائز کرنا، سرکاری حیثیت میں مسند نشیں کرنا۔ ـــ ل ہ کی جانب برائی یا دشمنی وغیرہ ظاہر کرنا۔ ـــ ہ علی کے خلاف تنقید وغیرہ کا رخ کرنا۔ ـــ علی کو دھوکا دینا، سے بے ایمانی کرنا، دغابازی کرنا، کو ٹھگنا، سے دھوکے سے لے لینا، کو جل دینا، فریب دینا۔ ـــ لفظ کو منصوب پڑھنا، کو نصب دینا۔ نصب له الحربَ: کے خلاف اعلان جنگ کرنا۔ نصب له شَرَكًا او نصب له فخًا: کے لئے جال بچھانا۔ نصب له کَمِینًا: کے لئے گھات لگانا، کی گھات میں بیٹھنا۔ نصب مَکِیدةً: سازش کرنا۔

نَصِبَ ـ نَصَبًا ہ: (بیماری یا غم کا) کسی کو پریشان کرنا، تھکانا، تھکا دینا، تکلیف پہنچانا، مغموم کرنا۔ نصبوا انفسهم ل: انہوں نے کے لئے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا، انہوں نے کے لئے سخت جدوجہد کی ہے۔ نَصِبَ ـ نَصَبًا: تھک جانا۔ ـــ في: میں کوشش کرنا، زور لگانا، جدوجہد کرنا۔ نَصَّبَ ہ: کو نصب کرنا، سیدھا کرنا، اٹھانا، بلند کرنا، اونچا کرنا۔ ـــ ہ ہ: کا بطور ـــ تقرر کرنا، کو کسی عہدہ پر تعینات کرنا۔ نَصَّبَ اذنیه: کان کھڑے کرنا۔ ناصَبَ ہ: کا مخالف ہونا، دشمن ہونا، سے لڑنا، کی مخالفت کرنا، سے مقابلہ کرنا، سے دشمنی ظاہر کرنا۔ ناصَبَهُ الحربَ: کے خلاف اعلان جنگ کرنا۔ ناصَبَهُ الشرَّ: خود کو کھلم کھلا کسی کا مخالف ظاہر کرنا، کے خلاف جارحانہ اقدامات کرنا۔ ناصَبَهُ العداء: اپنے آپ کو کسی کا دشمن بیان کرنا۔ أنْصَبَ ہ: کو تھکا دینا، کیلئے حصہ مقرر کرنا۔ إنْتَصَبَ: اٹھنا، سیدھا ہونا، کھڑا ہونا، سینہ تاننا، جم جانا، سو کر اٹھنا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، عمودی حالت میں ہونا، نصب ہونا۔ ـــ ل کے عہدہ پر فائز ہونا۔ ـــ منصوب ہونا۔ انتصب للحکم: دوسروں پر نقطہ چینی کرنا، یا فتوی دینا۔ نَصْب: نصب کرنا، رکھنا، تعمیر، (جھنڈا) لگانا، بلند کرنا، تعیین، تعین، تعیناتی، تقرر، مسند نشینی، جانشینی، تخت نشینی۔ نصب (گرامر) بیماری، مرض، دھوکا، ٹھگی، خرد برد، چالبازی، دغابازی، فراڈ۔ نَصْب جمع أنْصاب: زمین میں لگائی ہوئی کوئی چیز، پودے۔ نُصْب و نُصُب جمع أنْصاب: بت، مجسمہ، صنم، تراشیدہ بت، یادگار۔ نُصْب تذکاری: یادگار، خالی قبر، یادگار مقبرہ۔ نُصْبَ: کے سامنے، کے بالمقابل، آمنے سامنے۔ نُصْبَ عَیْنَيَّ: میری آنکھوں کے سامنے۔ جَعَلَ (وَضَعَ) ہ نُصْبَ عَیْنَیْهِ: پر اپنی توجہ مرکوز کرنا، کو پیش نظر رکھنا۔ نَصَب: مشقت، سعی، جدوجہد، تندہی، تناؤ، زور، بے حد کوشش، دشواری، سختی، مصیبت، کلفت، اذیت، آزار، تکلیف، تھکن، تھکان، محنت جمع أنْصاب: زمین میں گاڑا ہوا جھنڈا۔ نَصْبَة جمع نَصَبات: پودا۔ نُصْبَة: کھمبا، میخیں، جنگلا، کھونٹا، میخ، چوب، لکڑی، چھڑی، پستہ، پیل پایہ، ستون، لاٹ، رہنما کھمبا، رہنما تھما۔ نِصاب: اصل، آغاز، کم از کم جائیداد کی رقم جس پر زکوٰۃ واجب ہو، کورم جمع نصابات و نُصُب: تلوار کا قبضہ، چاقو یا چھری کا دستہ۔ في نِصابه: اپنی مناسب جگہ میں، ترتیب میں ٹھیک ٹھاک، استقرتِ الامورُ في نِصابها معاملات معمول پر آگئے، معاملات سدھر گئے۔ وضع الحق في نصابه: انصاف بحال کرنا۔ وضع اورَدَّ (أعادَ) امراً إلى نصابه: معاملہ ٹھیک ٹھاک کر دینا۔ عاد الهدوء إلى نصابه: امن بحال ہو گیا۔ إتماماً للنصاب: تعداد پوری کرنے کیلئے، مقدار پوری کرنے کے لئے۔ نَصّاب: دغاباز، دھوکے باز، فریبی، عیار، چپے باز۔ نَصِیب جمع نُصُب و أنْصِباء و أنْصِبَة: حصہ۔ ـــ في: میں شرکت، منافع میں حصہ، وقتاً فوقتاً ہونے والا منافع، قسمت، خوش نصیبی، خوش قسمتی، اتفاق، امکان، احتمال، بہترین موقعہ، تقدیر، قرعہ۔ کان من نصیبه: کے حصہ میں آنا۔ کان من نصیبه أن: اتنا خوش نصیب ہونا کہ، کی خوش قسمتی ہونا کہ۔ کان نصیبه من ذلك الاخفاق: میں بد قسمت ہونا۔ هو علي نصیبٍ وافرٍ من: میں کافی حصہ کا مالک ہونا۔ مَنْصِب جمع مَناصِب: جگہ جہاں کوئی چیز لگائی جائے یا نصب کی جائے یا تعمیر کی جائے۔ عہدہ، منصب، مرتبہ، قدر و منزلت، عظمت، حیثیت، مقام، نوکری۔ اصحابُ المناصِب یا ارباب المناصب: معزز عہدے داران، اعلیٰ افسران، عالی مرتبہ شخصیات۔ ناصِب: تھکا دینے والا، اکتا دینے والا۔

نصت: نَصَتَ ـ نَصْتًا و انْتَصَتَ لهُ: کی بات چپ رہ کر سننا۔ أنْصَتَ لهُ: کی بات چپ چاپ سننا۔ ـــ ہُ: کو چپ کرانا، خاموش کرنا۔ تَنَصَّتَ: چپ اور خاموش ہو کر سننے کی کوشش کرنا۔ إسْتَنْصَتَ: سننے کیلئے چپ چاپ کھڑا ہونا۔ ـــ ہُ: کو خاموش ہو کر بات سننے کے لئے کہنا۔ النُّصْتَة: خاموشی۔

○ نَصَتَ ـ نَصْتًا و أنْصَتَ ل/ الی: کو بغور سننا، کو سننے کی کوشش کرنا، پر کان لگانا، پر کان دھرنا۔ تَنَصَّتَ: سننے کی کوشش کرنا، چپ کر کے سن گن لینا، کن سوئیاں لینا، پوشیدہ ہو کر بغور سننا یا سننے کی کوشش کرنا۔ مُتَنَصِّت: چھپ کر سن گن لینے والا۔

نصح: نَصَحَ ـ نُصْحًا و نُصُحًا و نَصاحَةً و نِصاحَةً و نَصاحِیَةً فلانًا و لفلانٍ: کو نصیحت کرنا، سے خالص اور سچی دوستی کرنا، صفت ناصِحٌ جمع نُصّاح و نُصَّح، کہا جاتا ہے: لا اوید منك نُصْحًا ولا انتصاحًا: میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے نصیحت کرو اور نہ مجھے خیر خواہ بناؤ۔ ـــ نَصْحًا و نُصُوحًا الشيُّ: خالص ہونا، صاف ہونا۔ ـــ تُ توبتَهُ: سچی اور پختہ توبہ کرنا۔ ـــ العملَ: کو خالص طریقہ سے کرنا۔ ـــ العسلَ: شہد صاف کرنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑا سینا۔ ـــ الغیثُ البلدَ:

بارش کا زمین کو سیراب کر کے سبزہ سے ڈھک دینا۔ ناصَحَ مُناصَحَۃً نفسَہٗ بالتوبۃ: خالص توبہ کرنا۔ — ہٗ: ایک دوسرے کو نصیحت کرنا۔ اَنْصَحَ الراعی الابلَ: چرواہے کا اونٹوں کو سیراب کرنا۔ تَنَصَّحَ: بہت نصیحتیں کرنا، نصیحت کرنے والوں کے مشابہ بننا۔ ۔ الثوبَ کپڑا سینا۔ اِنْتَصَحَ نصیحت قبول کرنا۔ — فلاناً: کو خیرخواہ جاننا۔ اِسْتَنْصَحَ ہٗ: کو خیرخواہ سمجھنا الناصح: خالص شہد وغیرہ (رَجُلٌ ناصِحُ الجَیْبِ: پاک دل، مخلص، درزی۔ — عند العامۃ موٹا، فربہ فعل "نَصِحَ" ہے اور اسم نَصَاحۃ۔ النِصاح جمع نُصُح و نِصاحۃ: سینے کا دھاگا۔ تار، لڑی۔ النِصاحات: واحد نِصاحۃ چمڑے جو آپس میں سلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھندے۔ النَصّاح و النّاصحیّ درزی۔ غیوثٌ نواصح پے در پے برسنے والی بارشیں۔ النصوح نصیحت کرنے والا امرد یا عورت۔ توبۃ نَصُوحٌ سچی توبہ۔ النصیح جمع نُصحاء نصحاء مخلص، خیر خواہ۔ النَصِیحۃ (اسم مصدر) ج نصائح اخلاص، خیرخواہی، اچھے کاموں کی طرف دعوت اور فساد والی باتوں سے رکنا۔ المِنصَح و المِنصَحۃ سوئی۔ المُتَنَصَّح مفع ثوبٌ مُتَنَصَّح پیوند لگا ہوا یا سلا ہوا کپڑا، کہا جاتا ہے: إن في ثوبه مُتَنَصَّحًا: اس کے لباس میں درستی اور سلائی کی جگہ ہے۔

ⓒ نَصَحَ — نُصْحًا و نُصُحًا و نَصَاحَۃً و نَصِیحَۃً ہٗ/ل: کو مخلصانہ مشورہ دینا — ل/ہٗ ب: کو کی نصیحت یا اصلاح دینا، کو کی تلقین کرنا۔ — کو سرزنش کرنا، سمجھانا، نشیب و فراز دکھانا، تاکید کرنا۔ — نَصْحًا و نُصُوحًا: مخلص ہونا۔ — ل کی خیرخواہی کرنا، کا خیر خواہ ہونا، کے ساتھ پرخلوص ہونا۔ ناصَحَ ہٗ: کو مخلصانہ مشورہ دینا، سے مخلص ہونا۔ نُصْح اچھا مشورہ، صلاح، مشورہ، تلقین، مشاورت، رہنمائی۔ نَصِیح: مخلص، مخلص اور ایماندار اصلاح کار۔ اِستنصاح: صلاح مشورہ۔

نصر ا۔ نَصَرَ ۔ نَصْرًا ہٗ: کی مدد کرنا۔ — ہٗ من و علی عدوّہ: کو دشمن سے خلاصی دلانا، کے خلاف مدد دینا۔ — الغیثُ الارضَ بارش کا زمین کو بہت سیراب کرنا۔ عالمگیر طریقہ سے برسنا۔ فلاناً کو دینا، عطا کرنا۔ نُصِرَتِ الارضُ زمین پر بارش برسنا۔ ناصَرَ مُناصَرَۃً ہٗ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تَنَصَّرَ لہٗ کی مدد میں دوڑ دھوپ کرنا۔ تَناصَرَ القومُ: مدد دینے میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، کہا جاتا ہے: تَناصَرَتِ الاخبارُ خبروں کا ایک دوسرے کی تصدیق کرنا۔ اِنْتَصَرَ غالب آنا، کامیاب ہونا، ظالم سے بچنا۔ — من عدوّہ دشمن سے انتقام لینا۔ — علی خصمہ: دشمن پر غالب ہونا۔ اِسْتَنْصَرَ ہٗ: سے مدد چاہنا۔ — بہ: سے فریاد کرنا۔ — فلاناً علی فلان: کے خلاف کسی سے مدد کرنے کی درخواست کرنا۔ الناصر جمع نَاصِرُون و نُصَّار و نَصْر و اَنْصَار فا: الانصار: نبی کریمؐ کے مدینہ کے باشندوں میں سے مددگار، نسبت کیلئے انصاری۔ — جمع نواصِر وادی کی طرف پانی بہنے کی نالی۔ مدّت الوادیَ النواصرُ: وادی کو نالیوں نے بڑھا دیا۔ الناصِرَۃ: الناصر کا مونث النَصْر (مص) مددگار (رَجُلٌ نَصْرٌ و قومٌ نصرٌ مددگار مرد اور مددگار لوگ) ناصر کی جمع جیسے رکب و راکب، بارش۔ النُصْر مددگار۔ النصرۃ: نَصَر کا اسم مرۃ، پوری بارش۔ النُصرۃ مدد، بہترین مدد، کامل بارش۔ النَصّار بہت مدد کرنے والا۔ النَصُور مددگار۔ النَصِیر جمع نُصَراء و اَنْصار مددگار۔ النَصِیرۃ جمع نَصائِر النصیر کا مونث، عطیہ۔ المَنْصُور مفع (ارض مَنْصُورۃ: بارش سے سیراب زمین۔

۲۔ نَصَّرَ ہٗ: کو نصرانی بنانا (بپتسمہ دینے کے معنی میں) تَنَصَّرَ: نصرانی ہونا۔ النَاصِرۃ وہ شہر جہاں حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش ہوئی تھی، نسبت کیلئے: ناصِری۔ النَصْران م نَصْرانۃ: نصرانی النَصْرانی جمع نَصَاری م نَصْرانِیَّۃ: شہر ناصرۃ کی طرف منسوب حضرت عیسیٰؑ کے دین پر چلنے والے لوگ۔ النَصْرانِیَّۃ نصرانیوں کا مذہب۔

۳۔ الناصُور جمع نَواصِیر: ناسور۔ النُصَیرِیَّۃ واحد نُصَیرِیّ غالی شیعوں کا ایک فرقہ جو شام کے شمال میں سکونت پذیر ہیں اور اپنے عقیدہ کو چھپاتے ہیں۔

ⓒ نَصِیر جمع نُصَراء: مددگار، حامی، حمایتی، موید، طرفدار، محافظ، نگہبان، والی، سرپرست۔ مربی، حلیف، شریک کار، پیرو، بہی خواہ، آگے بڑھانے والا۔ اخذ بناصِرہ کی مدد کرنا۔ منصور تائید کیا ہوا، حمایت کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیا ہوا، فاتح فتحمند، کامیاب، بامراد، مُنتصِر فاتح، جیتنے والا، فتحمند، کامیاب، بامراد، مُناصِر مددگار، تائید کنندہ، حامی، حمایتی، طرفدار، محافظ۔

نصع ا۔ نَصَعَ ۔ نُصُوعًا و نَصَاعَۃً الشئُ خالص ہونا۔ — نُصُوعًا الامرُ معاملہ کا واضح ہونا، ظاہر ہونا، کہا جاتا ہے: نَصَعَ الحقُّ حق واضح ہوگیا۔ — اللونُ رنگ کا بہت سفید ہونا۔ الشاربُ پیاسے کا پیاس بجھانا۔ — بالحق حق کا اقرار کر کے اسے ادا کرنا۔ — ت الامُ بہ ماں کا بچہ جننا، کہا جاتا ہے۔ قَبَّحَ اللّٰہُ اُمًّا نَصَعَتْ بہ: اللہ ایسی ماں کو بدشکل بنائے جس نے اسے جنا۔ اَنْصَعَ بالحق حق کا اقرار کر کے اس کو ادا کرنا۔ — للشّر: برائی کے درپے ہونا۔ النَاصِع: خالص، صاف۔ اصفرُ ناصِع و ابیض ناصع خالص اور صاف زرد و سفید۔ حقٌّ ناصِعٌ: ظاہر حق، حسبٌ ناصِعٌ: خالص حسب۔ النَصْع و النِصْع و النُصَع: بہت سفید چمڑا یا کپڑا۔ النِطَع: چمڑے کا فرش جس پر مجرم قتل کیا جاتا ہے یا ایذاء دیا جاتا ہے۔ النَصِیع: خالص، صاف۔ احمرُ نَصَّاع: خالص سرخ۔ حمرۃٌ نَصّاعۃٌ: خالص سرخی۔ المَناصِع واحد مَنْصَع قضائے حاجت کی جگہیں۔

ⓒ نَصَع ۔ نُصُوعًا: خالص، صاف، ستھرا، پاک ہونا، ظاہر ہونا، واضح ہونا، آشکار ہونا، — ب: کو تسلیم کرنا، اَنْصَعَ ب: کو تسلیم کرنا، ماننا، قبول کرنا، بجا سمجھنا۔ نُصُوع سفیدی، (رنگ کی) چمک دمک، آب و تاب۔ نَصِیع: خالص، صاف، واضح۔ نَصَاعَۃ: صفائی، پاکیزگی، وضاحت، صراحت، (نیز اظہار، بحث مباحثہ کی وضاحت و صراحت) ناصِع خالص، صاف، واضح، سفید، ناصع البیاض: برف جیسا سفید۔ حق ناصع ظاہر حق، لھم جباہ ناصعۃ: ان کا ماضی اچھا ہے بے داغ ہے۔

نصف ا۔ نَصَفَ ۔ نُصُوفًا ہٗ: کے آدھے تک پہنچنا۔ کہا جاتا ہے: نَصَفْتُ عمری: میں اپنی آدھی عمر تک پہنچ گیا۔ نصفتُ الکتابَ میں کتاب کے نصف تک جا پہنچا۔ نصف النہارُ وغیرہ دن وغیرہ کا نصف تک پہنچنا۔ — نَصْفًا و نَصَافَۃً و نصافۃً الشئَ: آدھی چیز لے لینا۔ — القومَ لوگوں سے نصف لے لینا۔ — الشئَ بین الرجلین ایک چیز کو دو مردوں میں آدھا آدھا بانٹ دینا۔ — القدحَ: پیالہ آدھا پی جانا۔ — نُصُوفًا النخلُ کھجور کے درخت کی بعض کھجوروں کا سرخ ہونا اور بعض کا سبز رہنا۔ نَصَّفَ الشئَ: چیز کے دو حصے کرنا، کو آدھا آدھا کرنا، چیز کا آدھا حصہ لے لینا۔ — النہارُ: دن کا آدھا ہونا۔ — رأسُ فلان: کے سر کا آدھا حصہ سفید ہونا اور آدھا سیاہ رہنا۔ — الرجلُ مرد کا ادھیڑ عمر تک پہنچنا۔ — النخلُ کھجور کے درخت کی کچھ کھجوریں سرخ ہونا اور کچھ سبز رہنا۔ اَنْصَفَ الشئُ نصف تک پہنچنا۔ — الشئَ: کا آدھا حصہ لینا۔ — المسافرُ مسافر کا نصف النہار

کے وقت چلنا۔ یا نصف النہار میں چلنا۔ ــــ الماءُ الاناءَ: پانی کا برتن کے آدھے حصہ تک پہنچنا۔ کہا جاتا ہے: انْتَصَفْتُ الماءَ الاناءَ: میں نے پانی کو برتن کے آدھے حصہ تک پہنچا دیا۔ ــــ الرجُلُ: منصف ہونا۔ الخصمَیْن: دو خصموں (مخالف فریقوں) کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا۔ ــــ من فلان: سے اپنا حق پورا لے لینا۔ نَاصَفَ مُنَاصَفَةً ہُ: کو آدھا آدھا بانٹ لینا۔ ــــ ہُ المالَ: کو آدھا مال دے دینا۔ تَنَصَّفَ الشيءَ: آدھی چیز لے لینا۔ کہا جاتا ہے: تَنَصَّفْنَاكَ بيننا. ہم نے تمہیں اپنے درمیان رکھا۔ ــــ الامیرَ: امیر سے انصاف کی درخواست کرنا۔ ــــ من فلان: سے انصاف طلب کرنا، سے اپنا حصہ آدھا لے لینا، انتقام لینا۔ تناصف القومُ: ایک دوسرے سے انصاف کرنا۔ إنتصف النهارُ وغیرہ: دن وغیرہ کا نصف تک پہنچنا۔ ــــ سهمُهُ في الصيد: تیر کا شکار کے بدن میں آدھے تک گھس جانا۔ ــــ الشيءَ: آدھی چیز لے لینا۔ ــــ من فلان: سے انصاف طلب کرنا، حق لینا، انتقام لینا۔ إسْتَنْصَفَ: انصاف چاہنا۔ ــــ من فلان: سے اپنا پورا حق لینا۔ النصف (بتثلیث النون) جمع أنْصاف: آدھا۔ النِصْف والنَصَف والنُصُف: انصاف، عدل۔ رجُلٌ نِصفٌ: عمر اور قامت میں اوسط درجے کا مرد نہ چھوٹا نہ بڑا۔ امرأة نِصفٌ ورجال نِصفٌ ونساءٌ نصف: بھی اس طرح اوسط قد اور عمر کی عورت، مرد یا عورتیں (واحد کے لفظ کے ساتھ سب کے متعلق) النَّصَف جمع نَصَفُون وأنْصاف: متوسط عمر کا درمیانی عمر کا رجُلٌ نَصَف: اوسط عمر کا مرد۔ امرأة نَصَف: متوسط عمر کی عورت جمع نُصُف ونُصْف وأنْصاف، انّ فلانة لعلى نَصَفها: فلاں عورت جوانی کے درمیان میں ہے۔ والنَّصَفة: انصاف، عدل۔ النَصِيف: چیز کا آدھا حصہ، آدھی چیز۔ ــــ من البُرْد: دو رنگی چادر۔ الأنْصَف: بہت انصاف کرنے والا، زیادہ نصف کرنے والا (خلاف قیاس أنْصَفَ کا اسم تفضیل ہے) النَصْفَان م نَصْفَى من الآنية ونحوها: برتن وغیرہ جو آدھے حصہ تک پانی سے بھرا ہوا ہے۔ العمودُ المُنصِف لقطعة مستقيم (ہ): قطعہ کے نصف پر عمود۔ مُنصِف الزاوية (ہ): نصف مستقیم زاویہ جو دو زاویوں کو برابر تقسیم کرے۔ المَنْصَف والمَنْصِف من الطريق: سڑک کا درمیان مَنْصَفُ الشي: چیز کا درمیان۔ المُنَصَّف مفع: وہ رس وغیرہ جو پک کر آدھا رہ گیا ہو مُنْتَصَفُ الشي: چیز کا درمیان۔ المتناصف من الرجال: سڈول بدن والا، مکانٌ متناصفٌ: برابر برابر اجزاء والی جگہ۔

۲۔ نَصَفَ ـــ نَصْفًا ونَصَافًا ونِصافًا ونَصَافَةً ونِصَافَةً الرجُلَ: کی خدمت کرنا۔ أنْصَفَ فلانًا: کی خدمت کرنا۔ تَنَصَّفَ الرجُلَ: کی خدمت کرنا۔ ــــ فلانٌ فلانًا: کا مطیع ہونا، سے خدمت لینا، سے بھلائی چاہنا۔ النَّاصِف (فا) جمع نَصَف ونَصَفَة ونُصَّاف: خادم۔ النَاصِفة جمع نَوَاصِف: ناصف کا مونث۔ المِنْصَف والمَنْصَف م مِنْصَفَة جمع مَنَاصِف: خادم۔

۳۔ نَصَّفَ الجاريةَ: لڑکی کو اوڑھنی اوڑھانا۔ تَنَصَّفَ الشيبُ فلانًا: کے تمام بال سفید ہونا۔ ــــ ت الجاريةُ: لڑکی کا اوڑھنی اوڑھنا۔ إنْتَصَفَت الجاريةُ: لڑکی کا اوڑھنی اوڑھنا۔ النَصِيف: سر کو چھپانے والی ہر چیز جیسے اوڑھنی، عمامہ وغیرہ۔

۴۔ نَاصِفَةُ الماء جمع نَوَاصِف: پانی کی نالی۔

○ نِصف ونُصف جمع أنْصاف: آدھا۔ نِصف، درمیان، نصف الدائرہ: نصف دائرہ (Semi-Circle) نصف شهري: پندرہ روزہ، نصف القرد: لیمر Lemar (بندر کی قسم کا ایک دودھ پلانے والا جانور جو رات کو نکلتا ہے)۔ نِصفُ القطر: نصف قطر (Radius) نصف الليل: آدھی رات، نصف النهار: دوپہر، نیم روز۔ القسط نصف السنوی: ششماہی قسط۔ نِصف: درمیانی چیز، درمیان عمر کا، درمیانی حجم یا خاصیت کا۔ نِصفی: آدھا، نیم، نصف۔ تمثال نِصفي: اوپر کا دھڑ، نیم مجسمہ، شلل نصفی: آدھے دھڑ کا فالج، لقوہ۔ نَصَف ونَصَفَة: انصاف۔ نصیف: نقاب، برقعہ، پردہ۔ تنصیف: دو حصوں میں تقسیم کرنا۔ مُنَاصَفَةً: کا نصف، آدھوں آدھ، آدھا آدھا، برابر حصوں میں۔ إنصاف: انصاف، عدل، معدلت، منصفانہ برتاؤ۔ ناصِف جمع نُصّاف ونَصَف ونَصَفَة: خادم، نوکر۔ مُنَصِّف: دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے والا۔ مُنْصِف: منصف، عادل، منصفانہ، معقول۔ مُنْتَصَف: درمیان في مُنْتَصَف الطريق: راستہ کے درمیان میں۔ مُنْتَصَف الساعة العاشرة: ساڑھے نو (9:30)

نصل: نَصَلَ ـُ نَصْلاً السهمَ: تیر میں پیکان لگانا۔ ــــ السهمُ: تیر میں پیکان لگنا۔ ـــِـ نَصْلاً ونُصُولاً من كذا: سے نکلنا، کہا جاتا ہے نَصَلَ السهم من نصله ونصلت الخيلُ من الغبار ونَصَلَ الطريقُ من موضع كذا: تیر پیکار سے، گھوڑے گرد و غبار سے اور راستہ کسی جگہ سے نکلا۔ ــــ ت اللحيةُ: داڑھی پر خضاب کا رنگ اتر جانا۔ نَصَلَ لونُ الثوب ونحوه: کپڑے وغیرہ کا رنگ بدل گیا، اڑ گیا۔ ــــ ت اللسعة اولحُمةُ: ڈنک کا اثر جاتا رہنا۔ ــــ بحقي صاغراً: کو نکالنا۔ ــــ من بين الجبال: پہاڑوں کے درمیان سے ظاہر ہونا۔ ــــ ت الناقةُ: اونٹنی کا اونٹوں سے آگے نکل جانا۔ نَصَّلَ السهمَ: تیر میں پیکان لگانا۔ أنْصَلَ السهمَ: تیر میں پیکان لگانا۔ تیر سے پیکان نکالنا۔ ــــ الشيءَ من الشيء: چیز کو چیز سے نکالنا۔ تَنَصَّلَ الشيءَ: کو نکالنا، کو پسند کرنا۔ ــــ الرجلَ: کے پاس سے سب کچھ لے لینا۔ ــــ إلى فلان من الجناية: کے نزدیک سنگین جرم سے بری الذمہ ہونا، کا جواز پیش کرنا۔ ــــ من كذا: سے نکلنا۔ ــــ كَمَدُ فلان: کا رنج و غم دور ہونا۔ ــــ ت اللِحْيةُ: داڑھی سے خضاب کا رنگ اترنا۔ تَنَاصَلَ: نکلنا، ظاہر ہونا۔ إنْتَصَلَ السهمُ: کا پیکان نکلنا۔ اِسْتَنْصَلَ ہُ: کو نکالنا۔ ــــ ت الريحُ اليبسَ: ہوا کا خشک پودے اکھیڑنا۔ النَصْل (مص): جمع نِصَال وأنْصُل ونُصُول: تیر کا پیکان، نیزہ، تلوار یا چھری کا پھل، تلوار کو بھی نصل کہا جاتا ہے۔ ــــ او الصفيحة (ن): پتہ کا پھیلاؤ۔ نَصْلُ الرأس: سر کی چوٹی۔ النَصْلان: پیکان اور بھالا۔ النَصْلَة: ایک پیکان۔ النَصِيل جمع نُصُل: کلہاڑا۔ سر کا بالائی حصہ۔ تالو، سر اور گردن کا جوڑ، وادی کی شاخ، صاف کیا ہوا گیہوں، لمبا پتھر جس سے کوٹا جاتا ہے۔ نَصِيل الحجر: پتھر کی سطح۔ المِنْصَل والمُنصَل: لمبا کوٹنے کا پتھر۔ المُنْصُل والمُنْصَل جمع مَنَاصِل: تلوار۔

○ نَصَلَ ـُ نُصُولاً: گرنا، زمین پر گرنا (رنگ کا) ماند پڑنا، اڑ جانا، پھیکا پڑنا۔ ــــ من: سے چھٹکارا حاصل کرنا، آزاد ہونا۔ تَنَصَّلَ من: سے آزاد ہونا، چھٹکارا پانا، کو چھوڑنا، سے دست بردار ہونا، سے انکار کرنا، پہلو تہی کرنا، بچنا، سے ہٹ جانا، سے ہاتھ دھو لینا، اپنے آپ کو جرم سے بری ثابت کرنا، اپنے بارے میں تائیدی دلائل پیش کرنا۔ تَنَصَّلَ من التبعة او المسؤولية: ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرنا، ذمہ داری سے پہلو تہی کرنا۔ نَاصِل: گرنے والا، مرجھایا ہوا، پژمردہ، ماند، پھیکا، اڑا ہوا (رنگ)

نصم: النُصْمَة: وہ تصویر جس کی تعظیم کی جاتی ہے بزرگوں کی تصویر جو دیواروں پر بنائی جاتی ہے۔ بت،

صغر۔

نصو: ۱۔ نصا ینصو نصواً والرجلَ: کو پیشانی سے پکڑنا۔ ـــ ت الماشطۃُ المرأۃَ: مشاطہ کا عورت کی پیشانی کے بالوں میں کنگھی کرنا۔ ناصی مناصاۃً ونصاءً الرجلَ: ایک دوسرے کو پیشانی سے پکڑنا۔ ـــ الشیءُ الشیءَ: ایک چیز کا دوسری چیز سے متصل ہونا۔ نصّی الرجلَ: کو پیشانی سے پکڑنا۔ تنصّت المرأۃُ: عورت کا اپنے پیشانی کے بالوں میں کنگھی کرنا۔ ـــ الشیءُ بالشیءِ: چیز کا چیز سے متصل ہونا۔ ـــ الرجلُ القومَ: قوم کی بہترین عورت سے شادی کرنا۔ تناصی القومُ: جھگڑے میں ایک دوسرے کے پیشانی کے بالوں کو پکڑنا۔ ـــ ت الاغصانُ وسحوھا: ہوا سے ٹہنیوں کا ایک دوسرے میں گھسنا۔ الناصیۃ جمع نواصٍ وناصیات: پیشانی، پیشانی کے بال جب دراز ہوں۔ کہا جاتا ہے: ذلَّ فلانٌ ناصیۃَ فلانٍ: فلاں شخص نے فلاں کی توہین کی اور اسے بے وقعت کیا۔ نواصی الناس: قوم کے بڑے لوگ۔ المُنتَصَی: دو وادیوں کے اتصال کی جگہ۔ دو وادیوں کے اوپر کے حصہ کے ملاپ کی جگہ۔

۲۔ نصا ینصو نصواً فلانٌ الثوبَ: کپڑا دور کرنا اتارنا۔

۳۔ النَصْو (طب): پیٹ درد۔

○ ناصیۃ جمع نواصٍ: (سڑک یا گلی کا) کونا۔ اخذ بناصیتہ: کو پیشانی کے بالوں سے پکڑنا۔ ـــ ہ: کو مناسب طور پر سلجھانا۔ ملک ناصیتہ: کا مالک یا کاریگر ہونا، یا ہو جانا، کو قابو میں رکھنا یا کرنا، پر کنٹرول کرنا، پر کمال حاصل کرنا، کا استاد ہو جانا۔ امتلک نواصیہ: کا مالک یا کاریگر ہونا یا ہو جانا۔ کو قابو میں رکھنا یا کرنا، پر کنٹرول کرنا، پر کمال حاصل کرنا، کا استاد ہو جانا۔ کل الآمال معقودۃ بناصیتہ: سب امیدیں یا توقعات اس سے وابستہ ہیں۔ حجر الناصیۃ: کونے کا پتھر۔

نصی: ۱۔ انَصی إنصاءً المکانُ: جگہ کا بہت جھاڑی (چارہ) والا ہونا۔ اِنتَصَی اِنتِصاءً الشعرُ: بالوں کا لمبا ہونا۔ ـــ الجبلُ او الارضُ: پہاڑ یا زمین کا بلند و لمبا ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو پسند کرنا۔ النَصِیّ واحد نَصِیّۃ جمع انصاء جج اَناصٍ (ن): ایک قسم کا عمدہ چارہ۔ ـــ جمع اَنصِیۃ (ع ا): گردن کی ہڈی۔ النَصِیّۃ جمع نَصِیّ وجج انصاء واَناصٍ: بمعنی نَصِیّ ـــ من القوم او الابل وغیرھا: چیدہ و برگزیدہ (لوگ، اونٹ وغیرہ) کہا جاتا ہے۔ ھذہ نَصِیَّتی: یہ میری بہترین اور چیدہ چیز ہے۔

۲۔ النَصِیّۃ جمع نَصِیّ وجج انصاء واَناصٍ: بقیہ۔

نضّ: ۱۔ نَضَّ ـِـ نضّاً ونَضِیضاً الماءُ: پانی کا تھوڑا تھوڑا بہنا، رسنا۔ ـــ ت القربۃُ من شدۃ الملء: مشک کا زیادہ بھرنے سے پھٹ جانا۔ ـــ مالُہُ: سامان کا نقدی میں تبدیل ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو ظاہر کرنا۔ ـــ نضیضَ الامرُ: ممکن ہونا۔ ما نضَّ بیدی منہ شیءٌ: میرے ہاتھ سے کچھ جدا نہیں ہوا۔ خذ ما نضَّ لک من دین او ثمن: جو قرض یا قیمت ہو سکے لے لو۔ نضّضَ الرجلُ: بہت درہموں اور دیناروں والا ہونا۔ انضّ الحاجۃَ: حاجت (ضرورت) پوری کرنا۔ تنضّضَ حقَّہُ من فلان: سے اپنا حق تھوڑا تھوڑا کر کے وصول کرنا۔ ـــ الحاجۃَ: حاجت پوری کرنا۔ ـــ فلاناً: کو برانگیختہ کرنا۔ استنضَّ حقَّہُ من فلان: سے اپنا حق تھوڑا تھوڑا کر کے لینا۔ ـــ المعروفَ او الخیرَ: بھلائی یا خیر تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرنا۔ الناضّ (فا): درہم و دینار۔ امرٌ ناضٌّ: ممکن کام۔ ماءٌ ناضٌّ: دیر تک ٹھہرنے والا پانی۔ النَضّ (مص): درہم و دینار۔ (استخلصہ منہ نضّاً: سے نقد لینا) مکروہات، معاملہ وغیرہ۔ رجُلٌ نضُّ اللحمِ: کم گوشت مرد۔ النضاضَ: تھوڑا تھوڑا فائدہ حاصل کرنا۔ النُضاضۃ من الماء وغیرہ: بچا ہوا پانی وغیرہ، تھوڑا پانی۔ نُضاضۃ الرجل: کا آخری بچہ۔ النَضّاض م نضّاضۃ: فعال مبالغہ کا۔ بئرٌ نضوضٌ: وہ کنواں جس سے پانی رسے۔ النضیض (مص) جمع نِضاض: تھوڑا پانی وغیرہ۔ رجُلٌ نضیضُ اللحمِ: تھوڑے یا کم گوشت والا مرد۔ جاء القوم باقصی نضیضھم: لوگ اپنی جماعت کے ساتھ آئے۔ النضیضۃ جمع اَنِضّہ ونضائض: تھوڑی سی بارشیں، کہا جاتا ہے: جاءوا باقصی نضیضتھم: وہ اپنی آخری جماعت کے ساتھ آئے۔ اِبلٌ نَضِیضۃ ونضائض: پیاسے اونٹ جن کی پیاس نہیں بجھتی۔

۲۔ نَضَّ ـِـ نضّاً ونضیضاً العودُ: جلتے میں لکڑی کے دوسرے سرے سے پانی نکلنا۔ النضائض: واحد نضیضۃ: گرم پتھر پر گوشت بھننے کی آواز۔

۳۔ نَضَّ ـِـ نضّاً ونضیضاً الطائرُ جناحیہ: پرندہ کا اپنے بازوؤں کو ہلانا۔ نَضنَضَ الشیءَ: کو حرکت دینا، ہلانا۔

۴۔ نَضنَضَ الرجلُ: بہت درہموں اور دیناروں والا ہونا۔

۵۔ نَضنَضَ لسانَہُ: زبان کو ہلانا۔ ـــ ہ: کو پریشان کرنا۔ نضناض والنضناضۃ من الحیّات: اپنی زبان نکال کر اسے ہلانے والا سانپ۔ وہ سانپ جو کسی جگہ نہ رہے یا جو اس شخص کو فوراً مار ڈالے جسے کاٹے۔

○ نَضَّ ـِـ نضّاً ونضیضاً: اتار چڑھاؤ کی آواز پیدا کرنا، رسنا، چونا، ٹپکنا، بہنا، پھوٹ نکلنا، رطوبت خارج ہونا، قطرہ قطرہ ٹپکنا، بہنا، قطرہ قطرہ ہو کر گرنا۔ نَضّ: نقد، نقدی، سکہ، سکے۔ نَضّ: نقد، نقدی۔ مالٌ نضٌّ: نقد، سکے، سکہ۔

نضب: ۱۔ نَضَبَ ـُـ نُضوباً الماءُ: پانی کا بہنا۔ ـــ عمرُہُ: کی عمر ختم ہونا۔ ـــ نُضوباً الماءُ: پانی کا زمین میں جذب ہونا۔ ـــ فلانٌ الثوبَ: کپڑے اتار دینا۔ ـــ عن الشیءِ: کشادہ ہونا، کہا جاتا ہے: نَضَبَ عنہ البحرُ: دریا کے پانی کا خشک ہونا۔ ـــ الخیرُ: بھلائی کا کم ہونا۔ ـــ ت عینہ: آنکھ دھنس جانا۔ ـــ ت المفازۃُ: ریگستان کا دور تک پھیلا ہوا ہونا۔ ـــ القومُ: لوگوں کا دور ہونا۔ ـــ فلانٌ: مرنا، کہا جاتا ہے: نضب ماءُ وجھہ: بے حیا ہو جانا۔ نَضَبَ الماءُ: پانی کا زمین میں بیٹھ جانا۔ ـــ ت الناقۃُ: اونٹنی کا دودھ کم ہو جانا۔ الناضِب جمع نُضَّب: فا غدیرٌ ناضبٌ: خشک تالاب، مکانٌ ناضِب: دور کی جگہ۔ دور افتادہ جگہ۔

۲۔ انُضَبَ القوسَ: کمان کی تانت کو کھینچنا تا کہ وہ آواز دے۔

۳۔ التَنضُب جمع تَناضِب (ن): ایک خاردار درخت۔

○ نَضَبَ ـُـ نُضوباً: زمین میں رسنا، جذب ہو جانا، خشک ہو جانا، ختم ہو جانا، مر جانا، کم ہو جانا، خالی ہو جانا، خرچ ہو جانا، گھٹنا، سکڑنا، سمٹنا، جھکنا، ڈھلنا، زوال پذیر ہونا۔ لا ینضب: لامتناہی، لازوال، بے انتہاء، جو کبھی ختم نہ ہو، مسلسل، پیہم، پے در پے، بلاناغہ۔ أنضَبَ ہ: کو کھینچ لینا، خالی کر ڈالنا، صرف کرنا، کمزور کر دینا، خشک کرنا، زائل کرنا، کھوکھلا کرنا، ختم کرنا۔ ناضب جمع نُضَّب: خشک، بے برگ و گیاہ، بنجر، کلر، شور، بانجھ۔

نضج: نَضِجَ ـَـ نَضْجاً الثمرُ او اللحمُ: پھل یا گوشت کا پکنا۔ صفت ناضج و نضیج۔ ـــ نَضَجاً ونَضَّجت الناقۃُ بولدھا: اونٹنی کے بچے دینے کی مدت گزر جانا اور بچہ نہ ہونا۔ انضج الثمرَ او اللحمَ: پھل یا گوشت کو پکانا۔ استنضج الکراعَ ای یدَ الشاۃِ: بکری کے پائے پکانا۔ النُضج والنَضْج: پھل یا گوشت کا پختہ ہونا، پکا ہونا، کہا جاتا ہے: ھو نضیجُ الرأیِ: وہ پختہ رائے والا ہے۔ امرٌ مُنضَج: پختہ بات۔ المِنضاج: گوشت بھوننے

کی تیخ۔

○ نَضِجَ ۔ نَضْجًا: معاملہ، شخصیت وغیرہ کا (پختہ یا پختہ کار ہونا، (گوشت کا) خوب پکا ہوا ہونا، (پھوڑے وغیرہ کا) پکنا، سے مواد آنا۔ اَنْضَجَ ہ: کو پکنے دینا، کو اچھی طرح پکانا۔ نَضْج و نُضج: پختگی، پختہ کاری، بلوغ، انقضاء معیاد۔ نُضُوج: پختگی، پختہ کاری، بلوغ، انقضاء میعاد۔ نَضِیج: پکا ہوا، پختہ، پختہ کار، اچھی طرح پکایا ہوا، (کھانا)۔ ناضِج: پختہ کار، اچھی طرح پکایا ہوا، (کھانا) بالغ۔

نضح: نَضَحَ ۔ نَضْحًا البیتَ بالماءِ: گھر میں پانی چھڑکنا۔ ۔ علیه الماءَ: پر پانی چھڑکنا۔ ۔ الجلدَ: کھال کو تر کرنا۔ ۔ عطشَهُ: پیاس بجھانا، سیر ہو کر نہ پینا۔ ۔ النخلَ: کھجور کے درخت کو اونٹنی کے ذریعے پانی لا کر سیراب کرنا۔ ۔ الشجرُ: درخت کا کلی دار ہونا۔ ۔ الزرعُ: فصل میں دانیں پڑنے لگنا، دانے دار ہونے لگنا۔ ۔ فلانًا بالنبل: پر تیراندازی کرنا۔ ۔ البعیرُ الماءَ: اونٹ کا کھیت میں ڈالنے کے لئے نہر یا کنویں سے پانی لانا۔ ۔ عن نفسه: اپنی مدافعت کرنا۔ ۔ نَضْحًا و تنضاحًا الإناءُ: برتن کا رسنا۔ ۔ الفرسُ: گھوڑے کا پسینہ بہانا۔ ۔ بِ العینُ: آنکھ کا آنسو بہنا۔ ۔ ت السماءُ القومَ: آسمان کا لوگوں پر بارش برسانا۔ ناضَحَ مُناضَحَةً عن كذا: کی مدافعت کرنا۔ اَنْضَحَ الزرعُ او الشجرُ: فصل کا یا درخت کا کلی دار ہونا۔ ۔ ۔ عِرضَ فلان: کی آبرو خراب کرنا۔ تَنَضَّحَ من فلان: سے بری ہونا۔ ۔ ت العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اِنْتَضَحَ الماءُ علیه: پر پانی کا چھڑکاؤ ہونا۔ اِسْتَنْضَحَ المُتَوَضِّیُٔ: وضو کرنے والے کا وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی چھڑکنا۔ الناضِح (فا): بارش، پانی چھڑک کر سیراب کی ہوئی جگہ۔ ۔ م ناضِحَة جمع نَواضِح: پانی لادنے کا اونٹ۔ النَضح (مص) جمع نُضُوح و اَنْضِحَه: پانی کا چھڑکاؤ، کھیت سیراب کرنے والا پانی۔ پانی کی طرح پتلی چیز۔ النَضَح جمع نُضُوح و اَنضاح: حوض، تالاب۔ النَضَّاح م نَضَّاحَة: مبالغہ کا صیغہ۔ کھجور کے درختوں کو سیراب کرنے والا۔ پانی لادنے کے اونٹ کو ہانکنے والا۔ قوسٌ نَضَّاحة بالنبل: تیر عمدہ پھینکنے والی کمان۔ النَضُوح: ایک قسم کی خوشبو۔ قربةٌ نَضُوح: پانی چھڑکنے کی مشک۔ قوسٌ نَضُوح و نَضُوحِیَّةٌ بالنبل: تیر عمدہ پھینکنے والی کمان۔ النَضِیح جمع نُضُح: حوض، تالاب، پسینہ۔ التَنضاح: پسینہ

المِنْضَحة و المَنْضَحَة: پانی چھڑکنے کا آلہ۔ جھارہ۔

○ نَضَخَ ۔ نَضْخًا ہ ب: کو سے تر کرنا، گیلا کرنا، نم کرنا، مربوط کرنا، پر کچھ چھڑکنا، پر (پانی) چھڑکنا، سے پر چھڑکاؤ کرنا۔ ہ: پودوں کو پانی دینا، کی آبپاشی کرنا، پیاس بجھانا، کو تسکین دینا۔ ۔ عن: کا دفاع کرنا، کی حفاظت کرنا۔ ۔ عن: کو روا رکھنا، کا جواز پیش کرنا، کی برات کرنا، کے لئے جواب دہ ہونا۔ کا ذمہ دار ہونا، کی تلافی کرنا۔ ۔ نَضَخَان: مائع یا سیال نکالنا، خارج کرنا۔ پسینہ پسینہ ہو جانا، پسینہ نکلنا، پسینہ آنا، عرق آلود ہونا، رسنا۔ ۔ ب: کے ساتھ بہنا، پھوٹ پڑنا، جاری ہونا، کو گرانا، پھینکنا، پچھاڑنا، خارج کرنا، بہانا، نکالنا، انڈیلنا۔ نَضَّاحة: چھڑکاؤ کی کل۔ مِنْضَخ: چھینٹا، بوچھاڑ، ڈوش، پچکاری۔ مِنْضَخَة جمع مَناضِخ: پانی دینے والی بالٹی، بوچھاڑ، پچکاری، ڈوش۔

نضخ: نَضَخَ ۔ نَضْخًا: پر چھڑکنا، کو تر کرنا، کہا جاتا ہے: نَضَخَ النبلَ و بالنبلِ فی العدو: اس نے دشمنوں میں تیزے مار کر بکھیر دیئے۔ ۔ نَضْخًا و نَضَخَانًا الماءُ: پانی کا چشمہ سے زور سے پھوٹنا۔ ناضَخَ مُناضَخَةً و نِضاخًا: ایک دوسرے پر پانی چھڑکنا۔ اِنْضَخَ و اَنْضَاخَ علیه الماءُ: پر پانی کا گرنا۔ اِنْتَضَخَ الماءُ: پانی کا چھڑکا جانا۔ النَضْخ (مص): کپڑے وغیرہ پر خوشبو کا نشان۔ النَضْخَة: بوچھاڑ۔ النَضَّاخ: موسلا دھار بارش۔ عینٌ نَضَّاخَةٌ: ابلتا ہوا چشمہ۔ المِنْضَخَة جمع مَناضِخ: پانی چھڑکنے کا آلہ۔ عوام اسے مرشّة یا رشاشہ کہتے ہیں۔

نضد: نَضَدَ ۔ نَضْدًا و نَضَّدَ المتاعَ: سامان کو ایک دوسرے پر چن کر یا ڈھیر لگا کر اکٹھا کرنا، ایسے سامان کو منضود و نَضِید و مُنَضَّد کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ رایٌ مُنَضَّد: پیوستہ اور مضبوط رائے۔ تَنَضَّدَت الاسنانُ ونحوها: دانتوں کا بالترتیب ہونا۔ اِنْتَضَدَ القومُ بمكان كذا: کسی جگہ لوگوں کا جمع ہونا اور ٹھہرنا۔ النَضَد جمع اَنْضاد و نُضُد: فربہ اونٹنی۔ جمع اَنْضاد: گھر کا چنا ہوا سامان۔ تخت، تہ بتہ، بادل، خریف، عزت و شرف، کہا جاتا ہے: لِبَنِی فلان نَضَدٌ: فلاں قبیلہ عزت و شرافت کا پیکر ہے۔ اَنْضادُ الجبال و السحاب: تہ بتہ، پہاڑ یا بادل۔ اَنْضادُ القوم: لوگوں کی جماعت اور تعداد۔ اَنْضادُ الرجُل: مرد کے شریف چچا اور ماموں۔ النَضُود جمع اَنْضاد و نُضُد: فربہ اونٹنی۔ النَضِیدَة جمع نَضائِد: بھری ہوئی چیز۔ تکیہ المِنْضَدَة: میز جس پر گھر کا سامان رکھا جائے۔ لکھنے پڑھنے کی میز، جس پر کتابیں رکھی ہوئی ہوں۔

○ نَضَّدَ ہ: ٹائپ کے حروف کو جوڑنا اور جمانا۔ نَضَد جمع اَنْضاد: پلنگ، چارپائی، کھاٹ، ڈھیر، (کتابوں) کی قطار، بوریوں کی قطاریں، متوازی قطاریں۔ نُضُد: میزیں نَضِید: ایک دوسرے پر ترتیب سے رکھی ہوئی، متوازی قطاروں میں کھڑی کی ہوئی، تہ بہ تہ، قرینہ سے لگی ہوئی (اشیاء)، بالترتیب، سلیقہ کا، باقاعدہ، باضابطہ، نَضِیدَة جمع نَضائِد: تکیہ، گدا، مِنْضَدَة جمع منضدات و مَناضِد: میز، کام کرنے کا میز، ڈسک، پلنگ، سہارا، بنیاد، ریک، خانہ، اڈا۔ تنضید: ٹائپ کے حروف کو جوڑنا، جمانا۔ مُنَضِّد: ٹائپ، سیٹ کرنے والا، کمپوزیٹر۔ (Compositor) (typsett) مُنَضَّد: ترتیب سے لگے ہوئے دانت وغیرہ، باقاعدہ لڑی میں پروئے ہوئے۔

نضر: نَضَرَ ۔ نُضْرًا و نَضْرًا و نَضْرَةً و نَضَرًا و نُضُورًا و نَضارَةً الوجهُ او الشجرُ وغیرها: چہرے درخت وغیرہ کا ملائم و تازہ اور خوبصورت ہونا۔ صفت ناضِرٌ و نَضِیرٌ و نَضِر۔ ۔ نَضْرًا ہُ اللّٰهُ: کو اللہ تعالیٰ کا تر و تازہ بنانا۔ نَضِرَ ۔ و نَضُرَ ۔ نُضْرًا و نَضْرَةً و نَضَرًا و نُضُورًا و نَضارَةً الوجهُ او اللونُ او الشجرُ وغیرها: چہرے، رنگ، درخت وغیرہ کا نرم و ملائم و تازہ اور خوبصورت ہونا۔ صفت ناضِرٌ نَضِیر و نَضِر۔ نَضَّرَہُ اللّٰهُ: کو اللہ تعالیٰ کا تر و تازہ بنانا۔ اَنْضَرَ: تر و تازہ ہونا۔ ۔ الشجرُ: درخت کا سبز پتوں والا ہونا۔ ۔ ہُ اللّٰهُ: کو اللہ تعالیٰ کا تر و تازہ بنانا۔ اِسْتَنْضَرَ الشیءَ: کو تر و تازہ پانا یا سمجھنا۔ الناضِر: خوبصورت، نرم و ملائم، سبز کائی۔ من كل لون: شوخ رنگ کا۔ احمر ناضر و اخضر ناضر: شوخ سرخ، شوخ سبز۔ النَضْر جمع نِضار و اَنْضُر: سونا، چاندی (زیادہ تر سونے کے معنی میں آتا ہے)۔ النَضْرَة: نعمت، حسن، رونق، دولتمندی، سونے کی ڈلی، کہا جاتا ہے: تَعرِف فی وجوههم نَضْرَةَ النعیم: ان کے چہروں میں آسودگی کی چمک اور رونق معلوم ہوتی ہے۔ النُضار: سونا، چاندی، عموماً سونا، ہر خالص شے، خالص سونا۔ ۔ النِضار: جھاؤ کا درخت، برتن بنانے کے کام کی عمدہ لکڑی۔ قدحٌ نُضار: عمدہ لکڑی سے بنا ہوا پیالہ۔ النُضارِیَّة (ح): ایک کیڑا جو چیونٹوں سے غذا حاصل کرتا ہے۔ النُضاریات (ح): ایک کیڑے کی قسم۔ النَضِیر و الاَنْضَر: سونا، چاندی۔

○ نَضَرَ ـُ وَنَضِرَ ـَ وَنَضُرَ ـُ نَضُورا و نَضْرَةً ونَضَارَةً: سرسبز ہونا، شگفتہ ہونا، ہرا بھرا، تروتازہ، لہلاتا ہوا یا خوبصورت ہونا، چمکدار ہونا، درخشاں ہونا، شوخ ہونا، تاباں ہونا، منور ہونا، تابندہ، فروزاں ہونا۔ نَضَّرَہ: کو چمکانا، شگفتہ کرنا۔ تَنَضَّرَ: ہرا، سبز، ہرا بھرا، تر و تازا ہونا، لہراتا ہوا ہونا، شگفتہ ہونا، شگوفے دار ہونا۔ نَضِر: سرسبز، شگفتہ، ہرا بھرا، تروتازہ، لہلہاتا ہوا، تابندہ، فروزاں، شعاع افشاں، نور افشاں، دہکتا ہوا، دمکتا ہوا۔ نَضْرَة: پھول، کلی، گل، بہار، رونق، تازگی، نظر فریب حسن، دلربائی، کشش، ظاہر شان، شان وشوکت، چمک، دمک، آب وتاب، خوبصورتی، صحت، قوت، طاقت، کس بل، دم خم، جان، زور، جوش، امیری، امارت، دولت۔ نُضَار: (خالص) سونا۔ نَضَارَة: پھول، کلی، تازگی، جوانی، شباب دلکشی، حسن جمال صحت، طاقت قوت، جان، زور، کس بل، دم خم۔ نَضِير: سرسبز، شگفتہ، ہرا بھرا، تروتازہ، لہلہاتا ہوا، تازہ، چمکدار، روشن، منور، تاباں، سونا۔ نَاضِر: سرسبز، شگفتہ، ہرا بھرا، تر و تازہ، لہلاتا ہوا، چمکدار، روشن، منور، تاباں، خوبصورت، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا۔

نضف: ا۔ نَضَفَ ـُ نَضْفًا ونَضِفَ ـَ نَضَفًا و انْتَضَفَ الفصيل مافي ضرع امه: اونٹنی کے بچے کا اپنی ماں کے تھن سے تمام دودھ چوس لینا۔

۲۔ نَضَفَ ـ نَضْفًا ہٗ: کی خدمت کرنا۔

۳۔ نَضَفَ ـُ نَضْفًا الحمارُ: گدھے کا گوز کرنا۔ النَّاضِف (فا) و المِنْضَف جمع مَنَاضِف: بہت گوز کرنے والا۔ النَّضِف و النَّضِيف: ناپاک۔ گندا۔

۴۔ أَنْضَفَ الجملُ: اونٹ کا دلکی چلنا۔ ـــ الجملَ: اونٹ کو دلکی چلانا۔ النَّضَفَان: دلکی چال۔

۵۔ أَنْضَفَ الرجُلُ: ہمیشہ جنگلی پودینہ کھانا۔ النَّضَف (ن): جنگلی پودینہ۔

نضل: ا۔ نَضَلَ ـُ نَضْلاً ہٗ: پر تیراندازی میں غالب آنا۔ نَاضَلَ نِضالاً و نِيضالاً و مُنَاضَلَةً ہٗ: کا تیراندازی میں مقابلہ کرنا۔ ـــ عنه: کی حفاظت کرنا، حمایت کرنا، کا دفاع کرنا۔ تَنَضَّلَ ہٗ: کو نکال دینا۔ تَنَاضَلَ القوم: ایک دوسرے پر فخر کرنا، تیراندازی میں مقابلہ کرنا۔ اِنْتَضَلَ ہٗ: کو نکالنا، کہا جاتا ہے اِنْتَضَلَ سهما من كنانته: اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا۔ ـ رجلاً من القوم او سهما من الكنانة: اس نے ایک مرد کو لوگوں میں سے اور تیر کو ترکش سے پسند کیا۔ ـ ت الابلُ في السير: اونٹوں کا چلنے میں پاؤں مارنا۔ ـ القومُ: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ تیر اندازی میں مقابلہ کرنا۔ النَّاضِل (فا) جمع نُضَّال: تیراندازی میں غالب۔

۲۔ نَضِلَ ـــ نَضَلاً البعيرُ: اونٹ کا لاغر ہونا۔ تھکنا۔ أَنْضَلَ ہٗ: کو لاغر کرنا، تھکانا۔

○ نَضَلَ ـُ نُضْلاً ہٗ: سے سبقت لیجانا، بڑھ جانا، فائق ہونا، پر غالب آنا، کو شکست دینا۔ نَاضَلَ ہٗ: سے سبقت لیجانے کی کوشش کرنا، سے مقابلہ کرنا، کا مد مقابل ہونا، سے لڑنا، کا ہم چشم ہونا، سے برابری کرنا، سے مناظرہ کرنا، تکرار کرنا، بحث کرنا۔ ـ عن: کا دفاع کرنا، کے لئے جدوجہد کرنا۔ تَنَاضَلَ: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ نِضَال: جدوجہد، جھگڑا، فساد، مباحثہ، مناقشہ، نزاع، لڑائی، جنگ، مقابلہ، دفاع، دفاعی جنگ۔ نِضَالِي: جنگجو، لڑاکا، جھگڑالو۔ مُنَاضَلَة: جدوجہد، جھگڑا، لڑائی، جنگ، مقابلہ، دفاع، دفاعی جنگ، مقابلہ، مسابقت۔ مُنَاضِل: لڑنے والا، جنگجو، نبرد آزما۔ جنگ آزما۔ حامی، محافظ، ناصر

نضو: نَضَا يَنْضُو نَضْوًا السيفَ من غمده: تلوار سونتنا، نکالنا۔ ـــ الثوبَ عنه: کے کپڑے اتارنا۔ ـ الرجُلَ من ثوبه: کو ننگا کرنا، برہنہ کرنا۔ ـ البلادَ: ملک طے کرنا۔ ـــ السيفُ: تلوار کا پار ہونا۔ ـــ الجرحُ: زخم کا ورم اترنا۔ ـــ الماءُ: پانی کا خشک ہونا۔ ـ نَضْوًا ونُضُوًّا الخضابُ: خضاب کا رنگ اتر جانا۔ ـ نَضْوًا ونُضِيًّا الفرسُ الخيلَ: گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں سے سبقت لیجانا۔ نَضَّى تَنْضِيَةً ثوبَهُ عنه: کے کپڑے اتارنا۔ أَنْضَى إِنْضَاءً الثوبَ: کپڑا بوسیدہ کرنا۔ ـــ البعيرَ: اونٹ کو لاغر کرنا۔ ـــ فلانًا: کو دبلا جانور دینا۔ تَنَضَّى البعيرَ: اونٹ کو لاغر و دبلا کرنا۔ اِنْتَضَى اِنْتِضَاءً السيفَ: تلوار سونتنا۔ الثوبَ: کپڑا بوسیدہ کرنا۔ النِضْو جمع أَنْضَاء: بہت مستعمل ہونے کی وجہ سے خراب تیر، بوسیدہ کپڑا۔ ـــ م نِضْوَة: لاغر جانور، لگام کا لوہا، پتلا تیر۔ النُضَاوَة من الخضاب: چھڑا ہوا خضاب، کہا جاتا ہے: اعطنى نُضَاوة حنَّائِكَ: مجھے اپنی گری ہوئی مہندی دو۔ النَضِيّ جمع أَنْضِيَة: لاغر جانور، بے پھل یا پر کا تیر، کاندھے اور کان کے درمیان کا حصہ۔ ـ من السهم: پر اور پیکان کے درمیان کا حصہ۔

○ نَضْنَاض: زبان ہلانے والا، ڈستے ہی ہلاک کر دینے والا (سانپ)۔

○ نضا عن نفسه: کپڑے اتارنا، برہنہ ہونا۔ ـ نَضْوًا ونُضُوًّا: گھٹنا، سکڑنا، سمٹنا، کم ہونا، روبہ تنزل ہونا، چھلکے، ڈھلنا، (رنگ) ماند پڑنا، اڑ جانا، پھیکا پڑنا۔ نَضْو جمع انضاء: پھٹا ہوا کپڑا۔ نِضْو جمع أَنْضَاء: لاغر، کمزور۔

نضی: نَضَى يَنْضِي نَضْيًا السيفَ: تلوار سونتنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑا اتارنا۔ ـــ و أَنْضَى وانْتَضَى الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔

نط: ا۔ نَطَّ ـُ نَطًّا الشيءَ: کو باندھنا، کھینچنا۔ ـ نَطًّا في الارض: زمین میں جانا۔ ـ نَطِيطًا: ہانکنا، پھاندنا۔ عقبةٌ نَطَّاء: دور کا درہ۔ النَّطَّاط: بہت سیاحت کرنے والا، کودنے پھاندنے والا۔ النَّطِيط (مص) مكانٌ نطيط: دور کی جگہ۔ ارض نطيطة: دور افتادہ زمین۔ الأَنْط جمع نُطُط: دور کا سفر۔

۲۔ نَطَّ ـ نَطًّا: بکواس کرنا۔ النَّطَّاط: بکواسی، بلغو دعوے کرنے والا۔

۳۔ نَطْنَطَ: دور ہونا۔ ـــ الرجُلُ: لمبے سفر والا ہونا۔ ـــ الشيءَ: کو کھینچنا۔ تَنَطْنَطَ: دور ہونا۔ النَّطْنَط والنُّطْنُط و النُّطْنَاط جمع نَطَانِط ونطانيط: لمبے قد والا۔

○ نَطَّ الحبلَ: رسی پر سے کودنا، رسی پھلانگنا (بچوں کا کھیل) نَط طُولي: چوڑی چھلانگ جست۔ نَطَّة: جست، چھلانگ، پھلانگ۔ نَطَّاط: جست لگانے والا، چھلانگنے والا، جھینگر، بے چین، کم عقل، سنکی، وہمی، خالی دماغ، باولا۔

نطب: ا۔ نَطَبَ ـُ نَطْبًا ہٗ: کو انگلی سے کان پر مارنا۔ نَاطَبَ مُنَاطَبَةً ہٗ: کو بجز کانا، سے جھگڑنا۔ أَنْطَبَ ہٗ: کو انگلی سے کان پر مارنا۔ ـــ أذنهٗ: کان کو انگلی سے مارنا۔

۲۔ النَّاطِبَة: نَوَاطِب کا واحد، چھلنی کے سوراخ۔ النِّطاب: سر، گردن کی رگ۔ المِنْطَب و المِنْطَبَة: چھلنی، صافی۔ المَنْطَبَة: احمق۔

نطح: نَطَحَ ـ نَطْحًا ہٗ الثورُ ونحوُهٗ: کو بیل وغیرہ کا سینگ مارنا۔ فلانًا: کو اپنے سے دور کرنا، ہٹانا۔ نَاطَحَ نِطاحًا و مُنَاطَحَةً ہٗ: کو سینگ مارنا۔ تَنَاطَحَ الكَبْشَان: دو مینڈھوں کا ایک دوسرے کو ٹکر مارنا۔ ـــ ت الامواجُ او السيولُ: موجوں یا سیلاب کے پانی کا ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ اِنْتَطَحَ الكبشان: دو مینڈھوں کا ایک دوسرے کو ٹکر مارنا۔ النَاطِح (فا): سامنے سے آنے والا پرندہ، یا وحشی، کہا جاتا ہے: ماله ناطحٌ ولا خابطٌ: اس کے پاس کچھ نہیں (ناطح: بھیڑ، مینڈھا، بیل، بکرا۔ خابط: اونٹ) (فلک): منازل قمر میں دو ستارے۔ النَّطْح: برج حمل کا ایک ستارہ۔ النواطح: سختیاں۔ النَّطِحَة: نطح کا اسم

مرۃ۔ لڑائی۔ النَّطّاح: بہت سینگ مارنے کا عادی۔
النَّطِیح م نَطِیحَۃ جمع نَطْحَی و نَطَائِح: سینگ مارا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، منحوس، گھوڑا جس کی پیشانی میں دو دائرے ہوں۔

○ نَطَحَ ـــ نَطْحًا: سر یا سینگ سے دھکیلنا، ریلنا، سر یا سینگ گھونپنا، سر یا سینگ سے ٹکر مارنا۔ نَاطَحَ ہ: سے ٹکرانا، کو زور سے مارنا، کو چھونا۔ تَنَاطَحَ و انْتَطَحَ: ایک دوسرے کو سینگ گھونپنا، یا سر یا سینگ سے ٹکر مارنا، ایک دوسرے کے ساتھ جدو جہد کرنا۔ نَطْحَۃ: دھکیلنا، ریلنا، سینگ یا سر گھونپنا۔ سر یا سینگ سے ٹکر مارنا۔ نَطَّاح: ٹکر مارنے کا عادی، ٹکر مارنے والا۔ نطیح: جسے سینگ مارا گیا ہو۔ مناطحۃ: سانڈ سے مقابلہ۔ نَاطِحَۃ السَّحَاب جمع نَوَاطِحُ السحاب: بڑی اونچی عمارت (Sky-scraper)

نطر: ا۔ نَطَرَ ـــ نَطْرًا و نِطَارَۃً الکرمَ او الزرعَ: انگوروں یا فصل کی نگہبانی اور حفاظت کرنا، انتظار کے معنی میں بھی مستعمل ہے النَّاطِر و النَّاطُور جمع نُطَّار و نَطَرَۃ و نَوَاطِیر و نُطَرَاء: انگوروں اور کھیتی کا رکھوالا۔ (سریانی لفظ) النِّطارۃ: باغبانی، چوکیداری۔ النُّطَّار: کھیت میں جانوروں اور پرندوں کو ڈرانے کیلئے کھڑا کیا جانے والا ڈراوا یا دھوکا۔ ڈراؤنا پتلا۔
۲۔ النَّاطُور: ہیرے کا ایک زیور جو پیشانی کے بالائی حصے پر لٹکایا جاتا ہے۔
۳۔ النَّطْرُون: کچا شورہ، خام شورہ (natron) خصوصاً وہ جو قاہرہ کے شمال مغرب میں واقع وادی نطروں کی نمک کی جھیلوں سے نکالا جاتا ہے۔

○ نَطَرَ ـ نَطْرًا و نِطَارَۃً ہ: کی دیکھ بھال کرنا، رکھوالی کرنا، نَطْر: دیکھ بھال، حفاظت، نگہبانی، نِطَارَۃ: دیکھ بھال، حفاظت، نگہبانی۔ نُطَّار: ڈراؤنا پتلا۔ نَاطِر جمع نُطَّار و نُطَرَاء و نَطَرَۃ و نَوَاطِر: محافظ، پاسبان، نگہبان، مہتمم، داروغہ، سنتری (خصوصاً باغوں اور انگور کے باغوں کا) دیہی پاسبان، بحری جہاز میں گھات لگا کر بیٹھنے والا۔ نَاطُور جمع نواطیر: محافظ، پاسبان، نگہبان، دیہی پاسبان، بحری جہاز میں گھات لگا کر بیٹھنے والا۔ ناطُورَۃ: سن رسیدہ اتالیق جو کنواری لڑکیوں کو آداب مجلس سکھاتی ہے۔

نطس: نَطِسَ ـ نَطَسًا: ماہر ہونا، دانا ہونا۔ تَنَطَّسَ: گفتگو یا لباس وغیرہ میں بے حد احتیاط کرنا، امور کو گہری نظر سے دیکھنا، کہا جاتا ہے۔ تَنَطَّسَ الاخبارَ و عن الاخبار: خبروں کے بارے میں تجسس و کرید کرنا۔ النَّاطِس: جاسوس، النَّطُس و النَّطِس و النَّطُس: عالم، گفتگو اور لباس میں بے حد محتاط۔ النُّطُس: ماہر اطباء۔ النُّطَسَۃ: بہت احتیاط کرنے والا۔ النِّطَاسِی و النَّطَاسِی و النِّطِّیس: عالم، ماہر طبیب۔

○ تَنَطَّسَ عن: کا مکمل جائزہ لینا، کی احتیاط سے تحقیقات کرنا، کی جانچ پڑتال کرنا۔ ـــ ب: میں بہت مہارت رکھنا یا کو بروئے کار لانا، میں ماہر ہونا۔ نَطْس و نَطُس: اچھی طرح باخبر، واقف حال، ذہین، ہوشمند، فہیم، تجربہ کار، ماہر، آزمودہ کار، نَطَاسِی و نِطَاسِی: پوری طرح باخبر واقف حال، ذہین ہوشمند فہیم، تجربہ کار، ماہر، آزمودہ کار جمع نُطُس: ماہر تجربہ کار طبیب۔

نطع: ا۔ نَطِعَ نَطْعًا و انْتَطَعَ و اسْتُنْطِعَ لونُہٗ: کا رنگ متغیر ہونا۔ النَّاطِع: خالص رنگ وغیرہ، بیاضٌ ناطِع: خالص سفیدی۔
۲۔ تَنَطَّعَ فی الکلام: کلام میں غلو کرنا، تالو سے بولنا۔ ـــ فی شہواتِہ: خواہشوں میں مبالغہ کرنا۔ ـــ فی عملہ: اپنے کام میں ماہر ہونا۔ ـــ الرجلُ: کھانا چمڑے کے دسترخوان پر رکھنا۔ سیر ہو کر کھانا۔ النَّطْع والنَّطَع جمع أَنْطَاع و نُطُوع: چمڑے کا فرش جس پر مجرم کو قتل کیا جاتا ہے یا اذیت دی جاتی ہے۔ النِّطَع و النِّطْع جمع نُطُوع: تالو کا اگلا حصہ۔ الحروف النِّطْعِیَّۃ ت، د، ط: جن کا مخرج تالو کا اگلا حصہ ہے۔ ـ جمع أَنْطَاع و نُطُوع: بمعنی۔ النَّطْع۔ النُّطَع: باچھیں، بھلا کر بولنے والا۔ نِطَاعُ القومِ: قوم کا علاقہ۔ کہا جاتا ہے: وطئنا نِطَاعَ بنی فلان: ہم نے فلاں قبیلہ کے علاقہ میں قدم رکھے۔ النُّطَاعَۃ: وہ لقمہ جس کا آدھا حصہ کھایا جائے اور باقی دسترخوان پر لوٹا دیا جائے۔ النَّطَّاع جمع نَطَّاعُون: کلام میں غلو کرنے والا، جلد ساز۔ التَّنَطُّع فی الکلام: کلام میں غلو

○ نُطِعَ: رنگ کا متغیر ہونا، پیلا پڑ جانا۔ تَنَطَّعَ: ضدی ہونا، ہٹ کا پکا ہونا۔ نَطْع و نِطَع جمع أَنْطَاع و نُطُوع: چمڑے کی چٹائی جو بطور میز پوش یا کھیل کے بورڈ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ماضی میں اس پر پھانسی بھی دی جاتی تھی۔ نِطَع و نِطْع و نُطُوع: سخت تالو۔

نطف: ا۔ نَطَفَ ـــ نَطْفًا و تَنْطَافًا و نَطَفَانًا و نِطَافَۃً الماءُ: پانی کا تھوڑا تھوڑا بہنا۔ ـــ ت القِرْبَۃُ: مشک کا ٹپکنا۔ ـ الماءَ: پانی گرانا۔ النَّاطِف (ط): ایک قسم کی مٹھائی۔ النُّطْفَۃ: ڈول یا مشک میں بچا ہوا تھوڑا سا پانی ـــ جمع نِطَاف و نُطَف: صاف پانی تھوڑا ہو یا زیادہ۔ سمندر، مرد یا عورت کا نطفہ۔ النُّطْفَتَان: دو سمندر، کہا گیا کہ وہ بحر روم اور بحر چین ہیں یا بحر مشرق اور بحر مغرب۔ النُّطَافَۃ: ڈول یا مشک وغیرہ میں بچنے والا تھوڑا سا پانی۔ ٹپکنے والی چیز۔ النَّطُوف: بارش والی رات، کہا جاتا ہے۔ لیلۃ نَطُوف: رات جس میں صبح تک بارش ہوتی رہے۔
۲۔ نَطَفَ ـــ نَطْفًا و تَنْطَافًا و نَطَفَانًا و نِطَافَۃً ہ: پر بدکاری کا الزام لگانا یا کسی خرابی سے ملوث کرنا۔ نَطِفَ ـــ نَطَفًا و نَطَافَۃً و نُطُوفَۃً: عیب دار ہونا، ملزم ٹھہرایا جانا، تہمت لگایا جانا۔ ـــ الشیئُ: چیز کا خراب ہو جانا۔ نُطِفَ نَطَفًا و نُطُوفَۃً: عیب دار ہونا، تہمت لگایا جانا۔ نَطَّفَ و أَنْطَفَ ہ: پر بدکاری کا الزام لگانا، کسی برائی میں ملوث کرنا۔ تَنَطَّفَ الرجلُ: عیب دار ہونا۔ ـ من کذا: سے نفرت کرنا۔ النَّطَف (مص): عیب، خرابی، برائی، فساد۔ النَّطِف: پلید، شکی مرد۔
۳۔ نَطِفَ ـ نَطَفًا و نَطَافَۃً و نُطُوفَۃً الرجلُ: کو بدہضمی ہونا۔
۴۔ نَطَّفَ المرأۃَ: عورت کو بالی پہنانا۔ تَنَطَّفَتِ المرأۃُ: عورت کا بالی پہننا۔ النُّطْفَۃ و النَّطَفَۃ جمع نُطَف: بالی، شفاف موتی۔

○ نُطْفَۃ جمع نُطَف: قطرہ، نر کا مادہ تولید، منی (Sperm)

نطق: ا۔ نَطَقَ ـ نُطْقًا و مَنْطِقًا و نُطُوقًا: بولنا۔ ـــ الکتابُ: کتاب کا واضح کر کے بیان کرنا۔ نَطَّقَ ہ: کو گفتگو کرانا۔ نَاطَقَ ہ: سے گفتگو کرنا۔ أَنْطَقَ ہ: کو گفتگو کرانا۔ تَمَنْطَقَ: علم منطق حاصل کرنا۔ من تَمَنْطَقَ فقد تَزَنْدَقَ: جو منطق کا علم حاصل کر لیتا ہے دہریہ ہو جاتا ہے۔ تَنَاطَقَ الرجلان: دو مردوں کا باہم گفتگو کرنا۔ انْتَطَقَ الرجلُ: بولنا، علم منطق حاصل کرنا۔ اسْتَنْطَقَ ہ: سے گفتگو کرنا۔ سے بولنے کو کہنا۔ ـــ ہ فی اصطلاح اصحاب القانون: پوچھ گچھ کرنا، پر جرح کرنا، اسم استنطاق: پوچھ گچھ، جرح۔ النَّاطِق فا: بولنے والا الانسان حیوان ناطق: انسان سمجھ دار ہے۔ مالہٗ ناطِقٌ ولا صامِت: اس کے پاس نہ تو کوئی جانور ہے اور نہ کوئی اور مال۔ کتابٌ ناطِق: واضح کتاب النَّاطِقَۃ: الناطق کا مونث۔ النفسُ الناطِقۃ: نفس ناطقہ، نفس انسانی۔ النُّطْق (مص): نطق ظاہری (گفتگو) نطق باطنی (فہم و ادراک) ہر دو مراد ہیں۔ (عربی میں النطق الخارجی و النطق الداخلی) النطق: بولنے والا۔ النَّطْقَۃ: نطق کا اسم مرۃ، کہا جاتا ہے: نطق نَطْقَۃً واحدۃً: وہ ایک بار بولا۔ النطاقۃ:

پرچہ، پرندہ کا ٹکڑا جس پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ نَطِیق جمع نُطُق: خوش بیان۔ مَنْطِق: ج ح بعد کو ... المنطق ... کلام، غیر انسانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ہے منطق الطیر میں ہے پرندوں کی بولی (کلام) تھی۔ علم المنطق: استدلال، منطق، بحث، استدلال، مناظرے کی قابلیت، زبردست استدلال و دلیل (Logic)۔ منطقی: منطق دان، منطقی، استدلالی۔ منطوق عبارت لاصول: جو مفہوم کے خلاف ہو۔

• نطیق: خوش بیان۔

۳۔ نَطَقَ: کو پٹکا یا پیٹی باندھنا۔ کی کمر پر پیٹی باندھنا۔ نَطَقَ الاکمة وغیرھا: پانی کا ٹیلے وغیرہ کے وسط تک پہنچنا۔ تَنَطَّقَ و انْتَطَقَ: کمر میں پٹکا باندھنا۔ ـــت المرأةُ: عورت کا کمر میں پٹکا باندھنا۔ ـــت الارضُ بالجبال: زمین کا پہاڑوں سے گھرا ہونا۔ نَطَّقَ: کمر میں پٹکا باندھنا۔ ـــت المرأةُ عورت کا کمر میں پٹکا باندھنا۔ ـــت الارضُ بالجبال زمین کا پہاڑوں سے گھرا ہونا۔ اِنْتَطَقَ: کمر میں پٹکا باندھنا۔ ـــت المرأةُ: عورت کا کمر میں پٹکا باندھنا۔ ـــت الارضُ بالجبال: زمین کا پہاڑوں سے گھرا ہونا۔ ـــ بقومه: اپنی قوم سے طاقت ور ہونا۔ ـــ فرسَهُ: گھوڑے کو کھینچنا۔ الناطِقة: کمر۔ النِطَاق جمع نُطُق: پیٹی، کمر کا پٹکا، جھالردار پیٹی۔ کہا جاتا ہے۔ عقد فلانٌ حُبُكَ النِطاق: فلاں آدمی جانے کے لئے تیار ہوا یا کام کے لئے فارغ ہوا۔ نِطَاقُ الجوزاء (فلك): وسط جوزاء کے تین ستارے، جو انتظام اور التئام کے لئے ضرب المثل ہیں۔ المِنْطَق و المِنطَقَة جمع مَنَاطِق: کمر باندھنے کا پٹکا یا پیٹی۔ کبھی اس سے فعل بنا کر تَمَنْطَقَ کہتے ہیں۔ یعنی کمر پر پٹکا باندھا، باندھنے کی چیز۔ المِنطَقَةُ الكُرَوِيَّة: کروی شکل کا علاقہ۔ علو المنطقة: دو سطحوں کے درمیان عمود۔ مِنطَقَةُ الجوزاء: تین ستارے۔ منطقة العوّاء: ایک اور ستارے کا نام۔ المُنَطَّق (مفع): پیٹی یا پٹکا باندھنے کی جگہ، کمر۔ المُنَطَّقَة من المعز: کمر میں سفیدی رکھنے والی بکری۔ المُنْتَطِق: رفیع الشان، غالب صاحب رسوخ کہا جاتا ہے: جاء مُنتَطِقًا حصانَهُ: وہ گھوڑے کے پہلو میں چلتا ہوا آیا اس پر سوار نہیں ہوا۔

○ نَطَقَ ـ نُطْقًا و نطوقًا و مَنْطِقًا: صاف تلفظ سے بولنا۔ ـــ ب: کچھ کہنا، بولنا، کو زبان سے نکالنا، کی آواز نکالنا۔ نطق بكلمة: کوئی لفظ کہنا۔ نَطَّقَ ہ: کو بولانا، کو تحفہ کرانا، کو پیٹی وغیرہ باندھنا، کو گھیرنا، حلقے میں لینا۔ تَنَطَّقَ ہ: کو بولانے سے گفتگو کرانا۔ تَنَطَّقَ: پیٹی وغیرہ باندھنا، کمر جانا۔ اِسْتَنْطَقَ ہ: سے سوال کرنا، پوچھ گچھ کرنا، سے عدالت میں بیان لینا، پر جرح کرنا۔ نُطْق: صاف گفتگو، تلفظ، کہنا، زبان سے کہنا، حکم، فرمان، فیصلہ، ڈگری۔ صدر النُطْقُ السامی ب: جلالۃ الملک کے حکم سے فرمان جاری کیا گیا کہ۔ نُطْقٌ بالحُكم: فیصلہ کا اعلان کرنا سنانا، صادر کرنا۔ فاقِدُ النطق: گم صم، بے سخن، وفور جذبات سے ساکت۔ نُطْقِی: صوتی، آواز سے متعلق۔ نِطَاق جمع نُطُق: گھیرا، (گھوڑے کا) تنگ، پیٹی، کمربند، پٹکا، محافظ پیٹی، دائرہ، چھلا، انگوٹھی، کڑا، کنڈا، احاطہ، حد، حد بندی، حدیں، زد، فاصلہ، رقبہ، وسعت، گنجائش، موقع، رسائی، دسترس، کرہ، حلقہ اثر و اقتدار، دائرہ اقتدار، عملداری، تعلقہ، علاقہ جاگیر، خیال و عمل کا میدان، منشائے قانون، متن قانون، پولیس کے سپاہیوں کا حلقہ، گھیرا۔ نِطَاق الجوزاء: سات ستاروں کا دائرہ۔ نطاق الحصار: ناکہ بندی کا گھیرا۔ واسع النطاق: جامع، کشادہ، دور تک پھیلا ہوا، دور رس، دور رس اثرات والا، بڑے پیمانہ کا۔ مَنْطِق: گویائی (کی صلاحیت)، طرز گفتگو، الفاظ کی چست بندش، الفاظ کا برمحل استعمال، طرز تحریر، زبان بولی، گفتگو، تلفظ، اظہار یا بیان، جوش بیانی، خطابت، طلاقت، فصاحت، منطق، علم، استدلال۔ لیس من المنطق أن: یہ بات غیر منطقی ہے کہ۔ علم المنطق: علم استدلال، منطق۔ مَنْطِقِی: منطقی، منطق کے مطابق، مدلل، معقول، قابل تسلیم۔ ـــ جمع مَنَاطِقَة: منطق دان، منطقی، علم کلام کی ماہر کلامی، نقاد۔ مِنْطَق جمع مَنَاطِق: پیٹی، کمربند، پٹکا۔ مِنْطَقَة جمع مَنَاطِق: پیٹی، پٹکا، کمربند، علاقہ، کرہ، قرب و جوار، پڑوس، قربت، زد، دسترس، رسائی، ضلع، حلقہ اثر، حلقہ اقتدار، رقبہ، طول و عرض، عملداری، سلطنت، ریاست، حلقہ، قطعہ، سیکٹر (Sector)، منطقة الاحتلال: مقبوضہ علاقہ۔ المنطقة الحارة: منطقہ حارہ (Torrid Zone)۔ منطقة البترول: تیل کا علاقہ، تیل (نکالنے) کے میدان۔ منطقة البروج: منطقہ بروج (Zodiac)۔ منطقة الجوزاء: Orien's belt سات ستاروں کا دائرہ۔ منطقة حرام یا منطقة ممنوعة: ممنوعہ علاقہ۔ منطقة الحرب: جنگی علاقہ۔ منطقه حرّة: آزاد علاقہ۔ منطقة صماء: (ریڈیائی لہروں کا) مردہ علاقہ۔ منطقة صناعية: صنعتی علاقہ۔ منطقة الضرب: میدان، جو گولیوں اور توپوں کی زد میں ہو۔ منطقة كروية: کروی علاقہ۔ المنطقتان المعتدلتان: دو معتدل علاقے۔ منطقة مُجَرَّدَة من التجهيزات الحربية: فوجی تنصیبات وغیرہ سے خالی علاقہ۔ منطقة النفوذ: حلقہ اثر۔ مِنْطَقِی: علاقائی۔ مِنْطِيق: بہت خوش بیان۔ اِسْتِنْطَاق: امتحان، جانچ پڑتال، پوچھ گچھ، جرح، تحقیقات، سوال جواب کرنا۔ ناطِق: بولنے والا، گویا، گفتگو کی صلاحیت رکھنے والا، طاقت گویائی رکھنے والا، خوش بیان، واضح، صاف، بین، صریح، معقول، عاقل، ذی عقل، (پارلیمنٹ کا) سپیکر، صدر پارلیمنٹ، ترجمان، نمائندہ۔ الناطِقون بالضاد: عربی بولنے والے۔ حیوان ناطق: ذی عقل (مخلوق)۔ دلیل ناطق: فیصلہ کن دلیل، شہادت۔ شريط ناطق: ٹاکی، گویا فلم (Sound film)۔ جريدة ناطقة: روزانہ خبروں کی فلم (News reel)۔ مَنْطُوق: اعلان کردہ، تلفظ کردہ، کہا ہوا، بولا ہوا، ظاہر کیا ہوا، طرز ادا، طرز بیان، الفاظ کی بندش، انتخاب الفاظ، اظہار مفہوم کے لئے الفاظ کا استعمال، متن، بیان، تشکیل، منضبط کیا ہوا (قاعدہ، ضابطہ) بالمنطوق: متن کے مطابق، صراحت سے، تاکید سے، صراحتاً، صاف صاف، تفصیل وار، غیر مبہم طور پر۔ منطوق العقد: عہد کی محتاط شرائط۔ منطوق الحُكم: قانون کا متن، قانونی متن۔ منطوق الكلمة: لفظ کے ظاہری معنی۔ مُسْتَنْطِق: بیان لینے والا مجسٹریٹ۔

نطل: ۱۔ نَطَلَ ـ نَطْلاً الخمرَ: شراب نچوڑنا۔ ـ و نَطَّلَ رأسَ العليل بالنَّطُول: بیمار کے سر پر دوا کا نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے گرانا۔ اِنْتَطَلَ من الزقِ: مشک سے نیم گرم پانی تھوڑا سا گرانا یا لینا۔ النَطَل (مص): انگور کا چھلکا، تھوڑا دودھ، شراب کی تلچھٹ۔ النَّطْل: شراب کی تلچھٹ۔ ابتدائی عمدہ شراب کے بعد کی نچوڑی ہوئی شراب۔ النُّطْلَة: شراب یا پانی یا دودھ وغیرہ کا گھونٹ۔ النَّاطِل: بمعنی النُّطلة: پیمانے میں بچنے والا فضلہ۔ کہا جاتا ہے: ما ظفرتُ منه بناطِل: مجھے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ـــ و النَّاطَل و النّاطِل جمع نَوَاطِل: شراب یا دودھ وغیرہ ناپنے کا برتن۔ النَّطُول: دوا میں جوش دیا ہوا پانی جس سے عضو ماؤف پر دھاریں ماری جائیں۔ النَّيْطَل جمع نَيَاطِل: شراب یا دودھ وغیرہ ناپنے کا برتن۔ ڈول۔ المَنَاطِل: شراب کشی کی مشینیں۔

۲۔ النَّيْطَل جمع نَيَاطِل: ہلاکت، موت۔ ـــ و النَّيْطَلاء:

مصیبت۔ الأنطلة: مصیبتیں

نَطَلَ ۔ نَطْلاً ہ کو نچوڑنا، پر گرم پٹی لگانا، کو سینکنا، کو گرم پانی یا دوا کے سیال سے دھونا۔ نَطُول: گرم پٹی، گدی، وہ چیز جس کا سینک دیا جائے، دھونا یا دوا ملے سیال میں غسل دینا۔

نطو: ۱۔ نطَا ینطو نطوًا الحبلَ: رسی کھینچنا۔ الغزلَ: بانا تنا۔ ـــ المنزلُ: منزل دور رہونا۔ ناطَی مُناطاةً الرجُلَ: سے باہم نزاع کرنا، سے مقابلہ کرنا، أنطَی: دینا، تناطَی القومُ: ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تناطوا الکلامَ: آپس میں گفتگو یا بحث کرنا۔ النَّطو: دوری، النَّطاةُ جمع أنطاء: کچی کھجور کا ذنھل۔ النَطِیّ: دور، طریق نَطِیّ: لمبا راستہ۔ ـــ والمَنطُوُّ من الغزل: تانا ہوا سوت۔

۲۔ نَطا ینطو نطوًا عن فلان: سے چپ رہنا۔

۳۔ نَطَی الحائطُ: دیوار کا گیلا ہو جانا (بارش سے)

نظر: نَظَرَ ـ نَظَرًا و مَنظَرًا و مَنظَرَةً و تَنظارًا و نَظَرانًا ہ و الیه: کو دیکھنا غور سے دیکھنا۔ ـــ نظرًا فی الأمر: کو سوچنا، پر فکر کرنا، کا اندازہ کرنا۔ ـــ الشیءَ: کا انتظار کرنا، کو مہلت دیکر بیچنا۔ ـــ بین الناس: لوگوں کے درمیان حکم کرنا، فیصلہ کرنا۔ ـــ للقوم: پر رحم کرنا، کو مدد دینا۔ ـــ فلانًا: کی طرف متوجہ ہونا۔ ـــ فلانًا الدینَ: کو قرض ادا کرنے کی مہلت دینا۔ ـــ فلانٌ: کاہن ہونا کہا جاتا ہے: انظر لی فلانًا: میرے لئے فلاں کو طلب کرو، داری تنظر دارہ: میرا گھر اس کے گھر کے بالمقابل ہے۔ نظر الدهرُ إلی بنی فلان: زمانہ نے فلاں قبیلہ والوں کو ہلاک کر دیا۔ ناظَرَ مُناظَرَةً ہُ: کا مشابہ ہونا، کے برابر ہونا۔ ـــ فلانًا بفلان او الشیءَ بالشیء: کا سے مقابلہ کرنا، کو کے مشابہ کرنا، کہا جاتا ہے داری تناظر دارہُ: میرا گھر اس کے گھر کے سامنے ہے۔ ـ الجیشُ الالفینِ: لشکر دو ہزار کے قریب پہنچ گیا۔ أنظَرَ الرجُلَ: کو مہلت دینا، کو ادھار چیز فروخت کرنا۔ ـ ہُ الدینَ: کو ادائیگی قرض کے لئے مہلت دینا۔ ـــ فلانًا لفلان: کو کے مشابہ بنانا۔ تنظَّرَہُ: کو آنکھ سے بغور دیکھنا، دیر کرنا، مہلت دینا۔ فلانٌ: جس کا انتظار تھا اس کی توقع کرنا۔ تناظرت الداران: دو گھروں کا آمنے سامنے ہونا۔ ـــ القومُ: ایک دوسرے کو دیکھنا۔ تناظروا فی الامر: میں باہم مشقت اٹھانا، بحث کرنا۔ إنتظَرَہُ: کا انتظار کرنا، کی امید رکھنا، کو دیر لگانا۔ إستنظَرَہُ: کا انتظار کرنا، سے مہلت چاہنا۔ الناظِر (فا): آنکھ، آنکھ کی پتلی، (ع ا) پیشانی سے نتھنوں تک کی ہڈی، متہم، هو شدید الناظر: وہ تہمت سے بری ہے۔ آنکھیں بھر کر دیکھتا ہے۔ جمع نُظّار: ناظم ادارہ جیسے ناظم وزارت خارجہ اور ناظر وزارت خزانہ (ناظر الخارجیة، ناظر المالیة) انگور کے باغ کا محافظ، کھیتوں کا چوکیدار۔ الناظِران (ع ا): ناک کے دو پہلوؤں کی دو رگیں۔ الناظِرة جمع نَواظِر: الناظر کا مونث، آنکھ۔ النواظِر (ع ا): آنکھوں کی رگیں جو سر تک پہنچتی ہیں۔ الناطُور: انگوروں کے باغ یا کھیتوں کا محافظ، چوکیدار۔ النظّارة: تماشائی، ناظرین، دوربین، عام لوگ ناصور کہتے ہیں۔ ـــ والناظورة مفرد جمع مذکر و مونث: قوم کا سردار۔ النظر: مثل، مشابہ۔ النظر (مص): نگاہ، بصیرت، دانائی، ہمسایہ لوگ۔ علم النظر والاستدلال: علم کلام، کہا جاتا ہے: فی هذا الامر نظرٌ: یہ معاملہ قابل غور ہے۔ بیننا نظرٌ: ہمارے درمیان اس قدر دوری ہے کہ نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ نظرًا إلی کذا وبالنظر إلی کذا یعنی اس کے لحاظ سے، فلانٌ تحت نظر فلان: وہ اس کے زیر حمایت ہے یا زیر التفات ہے۔ النَظرة: نظر کا اسم مرہ۔ لحہ، ایک نگاہ، ہیبت، بری ہیبت، برائی، رحمت۔ نظره بعین النَظرة: اس نے اسے مہربانی کی نظر سے دیکھا۔ النَظِرة: مہلت، تاخیر۔ النَظَری: نظر سے منسوب، نظری (ضد عملی) النظریة جمع نظریات ہ نظریہ، جو صحت کے لئے دلیل کا محتاج ہو۔ نَظارِ: انتظار کر۔ (امر کا اسم فعل) النِظار والنِظارة: فراست، دانائی۔ النظارة عند ارباب السیاسة: ناظم کا کام اور مقام۔ وزارت۔ نظارة الخارجیة: وزارت خارجہ۔ نظارة المالیة: وزارت خزانہ۔ النظّار: تیز دیکھنے والا۔ فرسٌ نظّارٌ: آتش مزاج گھوڑا۔ النظّارة: تماشائی، ناظرین، دوربین۔ النَظُور: دلچسپی کے معاملات کی تحقیق میں غفلت نہ کرنے والا۔ ـــ (مفرد و جمع مذکر و مونث): قوم کا سردار۔ النَظُورة (مفرد جمع مذکر مونث) قوم کا سردار۔ نَظُورة القوم او الجیش: ہراول دستہ۔ النَظیر (فلک): کرہ سماوی کی وہ سمت جو پیروں کی عین سیدھ میں ہے۔ سمت الرجل بمت القدم۔ نظیر السَمت: سمت القدم (Nadir)۔ ـ جمع نُظَراء م نظیرة جمع نظائر: مثل، مساوی، کہا جاتا ہے: فلانٌ نظیر فلان: دونوں میں سے ہر ایک کی آنکھ دوسرے کو دیکھ رہی ہے۔ النظیرة (مفرد جمع مذکر مونث) قوم کا سردار۔ نظیرة القوم او الجیش: ہراول دستہ۔ نظائر القوم: قوم کے شرفاء۔ المنظَر جمع مَناظِر: نظارہ، کہا جاتا ہے: فلانٌ فی منظری و مُستَمعی: فلاں شخص کی طرف دیکھنا اور اس کی باتیں سننا مجھے پسند ہے۔ کنت عن هذا المقام بمنظر: میں اس مقام سے علیحدہ تھا۔ المَناظِر: بلند زمینیں۔ عِلمُ المَناظِر: وہ علم جس کے ذریعے اشیاء کی مقدار دیکھنے والے کی نظر سے قریب یا بعید ہونے کے لحاظ سے معلوم ہو۔ المَنظَرة (مص): منظر (اچھا یا برا) بلند زمین یا عمارت جس سے دیکھا جائے۔ کسی چیز کو دیکھنے والے لوگ۔ المَنظَری والمَنظَرانی: خوش نما۔ المِنظار جمع مَناظیر: آئینہ۔ المُناظِر (فا): مثل۔ شکلان مُتناظِران: متناسب و متوازن شکلیں۔ المَنظُور (مفع): وہ شخص جس کی بھلائی کی امید رکھی جائے۔ نظر بد لگا ہوا۔ المَنظُورة: المنظور کا مونث۔ مصیبت، امرأة منظُورة: عیب دار عورت۔

نَظِرَ ۔ نَظَرًا و مَنظَرًا ہ/ ہ/ إلی: کو دیکھنا، گھورنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، چھلتی ہوئی نظر ڈالنا، پر توجہ دینا۔ ـــ ہ: کی امید کرنا، توقع کرنا۔ ـــ ہ/ فی: پر غور کرنا، غرض ہونا، مقصد ہونا۔ ـ إلی: کو ذہن میں رکھنا، نگاہ میں رکھنا، پر توجہ کرنا۔ ـ فی: (عدالت کا) مقدمہ سننا، کی طرف توجہ کرنا، کی تحقیقات کرنا۔ ـ ہ/ فی: کی پڑتال کرنا۔ ـ بین: مقدمہ کے دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ ـ ل: کا خیال رکھنا، کی مدد کرنا، کی دیکھ بھال کرنا۔ نظر الیه شزرًا: کو کنکھیوں سے دیکھنا، شک و شبہ کی نظروں سے دیکھنا، کو پہلو کی طرف سے دیکھنا۔ نظر القضیةَ یا فی القضیة: مقدمہ کی سماعت کرنا۔ نظر فی طلب فلان: کی درخواست پر عمل کرنا، نگہداشت کرنا، نظر من فُرجة المفتاح او فُوهَة المفتاح: سوراخ سے جھانکنا۔ أنظُر بعدَہُ: نیچے دیکھو۔ أنظُر ظَهرَهُ: دوسری جانب یا پشت پر دیکھو۔ ورق پلٹئے۔ نظَرَ بین: کے درمیان مقابلہ کرنا، کے درمیان موازنہ کرنا۔ ناظَرَ ہ/ ہ کو برابر کرنا، کے برابر ہونا۔ ہ و ہ ب کو کے برابر کرنا، کو کے برابر درجہ پر رکھنا، کو کے برابر درجہ دینا، کو سے تشبیہ دینا۔ ـ ہ: سے مقابلہ کرنا، کے خلاف مقابلہ میں حصہ لینا، کے مقابلہ میں ہونا، کا حریف یا رقیب ہونا، سے بحث کرنا، جھگڑا کرنا۔ ـ ہ ب: پر کچھ واضح کرنا، کو کے روبرو کرنا، کو سے دوچار کرنا۔ ـ ہ: کی نگرانی کرنا، کا انتظام کرنا۔ أنظَرَہ: کو مہلت دینا۔ تنظّرَ ہ/ ہ کو توجہ سے دیکھنا، کی جانچ پڑتال کرنا۔ ـ: انتظار کرنا، موقعہ کی تاک میں ہونا، موقعہ کا انتظار کرنا۔

تَنَاظَرَ: ایک دوسرے کا سامنا کرنا، کے مقابل ہونا، متناسب ہونا، متوازن ہونا، ایک دوسرے سے جھگڑنا، بحث کرنا ـ علی: کے بارے میں لڑنا جھگڑنا، پر لڑنا، کیلئے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، پر حق کے لئے جدوجہد کرنا۔ اِنْتَظَرَہُ: کا انتظار کرنا۔ ـــ ہ/ ھ: کی توقع کرنا، ـ ھ: کی راہ دیکھنا، کی توقع کرنا۔ ـ ہ: کو بغور دیکھنا ـ: متوقع طور پر دیکھا کرنا، انتظار کرنا، موقع کی تاک میں ہونا، موقع کا انتظار کرنا، انتظر من ورانہ کل خیر: میں بڑی سے بڑی توقعات رکھنا۔ اسْتَنْظَرَ: انتظار کرنا، راہ دیکھنا، توقع کرنا، صبر کرنا، صابر ہونا، مہلت کی درخواست کرنا۔ ـــ ہ: کو انتظار کرنے کیلئے کہنا، کو انتظار میں رکھنا۔ نَظَر جمع اَنْظَار: دیکھنا، نظر، تصور، خواب، نظریہ، نقطہ، نظر، نقطہ، نگاہ، زاویہء نگاہ، وسیع منظر، وسیع ذہنی میدان، منظر، نظارہ، چہرہ شکل، رخ، پہلو، ظہور، شکل، شہادت، گواہی، بصیرت، معرفت، گہری نظر، پرکھ، پہچان، تیز فہمی، ذکاوت، فہم و فراست، نفوذ، رسائی، ادراک، احساس، شعور، تصور، دھیان، سوچ بچار، غور و فکر۔ ـ (فی: کی) جانچ پڑتال۔ معائنہ، مطالعہ، ملاحظہ، غور، فکر، اندیشہ، فلسفیانہ غور و فکر، نظریہ، قیاس، رائے ـــ (فی): کی مقدمہ کی سماعت انتظام نگرانی، دیکھ بھال، کنٹرول، کڑی نگرانی، قابلیت، دائرہ اختیار، توجہ، دھیان، لحاظ، خیال، بجا آوری، تعمیل، نظرًا الی یا نظرًا ل: کے پیش نظر، کرنے کے خیال سے، جہاں تک اس کا تعلق ہے، کے بارے میں، کے متعلق، کی بابت، کی بنیاد پر، کی وجہ سے، کے باعث۔ بالنظر لِ: (مندرجہ بالا معانی میں)۔ بصرف النظر عن یا بقطع النظر عن: سے قطع نظر، بلا لحاظ، تحت النظر: زیر غور، زیر مطالعہ، سے نبٹا جا رہا ہے۔ دون النظر إلى: سے قطع نظر، فی نظری: میری رائے میں۔ للنظر فی: کے مطالعہ کیلئے، پر غور کیلئے، کی مزید جانچ پڑتال کیلئے، سے نبٹنے کیلئے، پر کارروائی کے لئے، اعادة النظر: دوبارہ جانچ پڑتال، دوبارہ غور و فکر، دوبارہ آغاز، از سر نو آغاز، دوبارہ سماعت، دوبارہ غور۔ اهل النظر: خیالی مفکرین، نظریات قائم کرنے والے، اصول مقرر کرنے والے۔ بعید النظر یا طویل النظر: دور اندیش، دور بین، آخر بین۔ قِصر النظر: کوتاہ بینی قصیرا لنظر: کوتاہ بین۔ المحکمة ذات النظر: سماعت کی مجاز عدالت۔ مسالة فیها نظر: غیر حل شدہ مسئلہ۔ من له نظر: قابل ذکر شخص، ممتاز شخص، ذمہ دار یا مجاز شخص۔ اخذ بالنظر: نظریں چار ہونا۔ سَارَقَ النظر الیہ یا سارقه النظر یا استرقَ النَظَر الیہ: کی طرف چوری چھپے دیکھنا، کو پوشیدہ طور پر دیکھنا۔ فی هذا الامر نظرٌ: یہ معاملہ محتاط مطالعہ کا متقاضی ہے، اس معاملہ پر غور کرنا ہوگا۔ قطع النظر عن: کو نظر انداز کرنا، کی پروانہ کرنا، هو تحت نظرِ فلان: وہ فلاں کی حفاظت میں ہے، فلاں اس کا سرپرست ہے۔ عدیمُ النظر: بے مثل، بے نظیر، منفرد، بے مثال، فقید المثال۔ ناظُور: فیلڈ گلاس field glass۔ منظر عام: عام منظر، مناظر طبیعیة: خشکی کے منظر۔ مَنْظَرہ: خشکی کا منظر، منظر، نظارہ، سیر بین (panorama)، نگہبانی کا برج، رصدگاہ، مہمان کا کمرہ، کمرہ استقبال، دیوان خانہ، بیٹھک۔ مِنْظَر: عینک، چشمہ، دوربین، چھوٹی دوربین (Spy Glass)۔ مِنظار جمع مَنَاظِیر: دوربین telescope، چھوٹی دوربین (Spy glass)، کلاں نما (magnifying glass) آئینہ۔ نظیرَ: کے معاوضہ کے طور پر، کے پیش نظر، کے بدلہ میں، کے عوض، کے بدلے، نظیرَ دفع خمسین ملیما: پچاس ملیم کی ادائیگی پر۔ نظراؤہُ: اس جیسے لوگ، لیس له نظیر، مقطوع النظیر یا منقطع النظیر: بے مثال، بے نظیر۔ مِنظار مُعظِم: کلاں نماں Magnifying glass۔ رقب بمنظار اسود: ہر چیز کے تاریک پہلو کو دیکھنا۔ تَنَاظُرٌ: اختلاف رائے۔ فضول جھگڑا، جھگڑا، لڑائی جھگڑا، حیص بیص۔ علی غیر انتظار: غیر متوقع طور پر۔ بین ناظریه: اس کی آنکھوں کے سامنے۔ منظور الیه: زیر نگرانی، ماتحت، گماشتہ، کارندہ، متوسل، زیر حمایت شخص، غیر منظور: غیر مرئی، جو نظر نہ آسکے، غیر متوقع، دعوی منظورة: زیر التواء مقدمہ۔ الشخص المنظور فی امره: وہ شخص جس کا مقدمہ زیر غور ہو۔

نظف: نَظُفَ ـُ نَظَافَةً الشئُ: صاف ستھرا ہونا۔ صفت نظیف م نظیفة جمع نُظَفَاء: کہا جاتا ہے، فلانٌ نظیف السراویل: فلاں شخص پاکدامن ہے۔ فلانٌ نظیف الاخلاق: فلاں مہذب ہے۔ نَظَّفَ الشئَ: کو صاف ستھرا کرنا۔ تَنَظَّفَ الشئُ: صاف ستھرا ہونا۔ ـ الرجُلُ: صاف ستھرا بننا، نیک ہونا۔ اِنْتَظَفَ الفصیلُ مافی ضرع امه: اونٹ کے بچے کا اپنی ماں کا سب دودھ پی جانا۔ اِسْتَنْظَفَ: صاف ستھری (چیز) طلب کرنا۔ ـــ الوالی الخراجَ: سب خراج وصول کرنا۔ ـــ فلانٌ الشئَ: سب کا سب لے لینا۔ ـــ الفصیلُ مافی ضرع اُمه: اونٹنی کے بچہ کا اپنی ماں کے تھنوں کا سب دودھ پی جانا۔

○ نَظَافَة: صفائی، صفائی پسندی، اَنْظف: زیادہ صاف نَظِیْف: صاف ستھرا، بنا سنورا۔ تَنْظِیفُ الأظْفَار: ناخن تراشنا، ناخنوں کی صفائی۔

نظم: نَظَمَ ـِ نَظْمًا و نِظامًا اللؤلؤَ ونَحْوَهُ: موتی پرونا۔ نَظْمُ الشِعْرِ: شعر کہنا۔ ـــ الشئَ إلى الشئ: چیز کو چیز سے جوڑنا۔ ـ الامرَ: کو قائم کرنا، برپا کرنا۔ نَظَّمَ اللؤلؤَ والشِعرَ: موتی پرونا، شعر کہنا۔ نَظَّمَ و أَنْظَمَ ت السمكةُ او الدجاجةُ: مچھلی یا مرغی کا انڈوں والی ہونا۔ تَنَظَّم اللؤلؤُ ونحوهُ: موتی وغیرہ کا لڑی میں پرویا جانا۔ ـــ الامرُ: کام کا درست ہونا۔ تَنَاظَمَ اللؤلؤُ ونحوهُ: موتی وغیرہ کا پرویا جانا۔ ـ ت الصخورُ: چٹانوں کا ایک دوسرے سے ملا ہوا ہونا۔ اِنْتَظَمَ اللؤلؤُ ونحوهُ: موتی وغیرہ کا لڑی میں پرویا جانا۔ ـــ الامر: کام کا درست ہونا۔ ـــ الصیدَ: شکار کو نیزے یا تیر سے چھید دینا۔ ـــ النَظْم (مص): ٹڈی دل، ٹڈیوں کی ایک قطار، نظم کیا ہوا، موزوں کلام، بعض ستارے جیسے (ثریا۔ نطاق الجوزاء والدَبَران: سات سہیلیوں کا جھمکا، پروین، برج ثور میں پانچ ستارے۔) النظام (مص): طور طریقہ، رواج، طرز عمل، عادت، کہا جاتا ہے: مازال علی نظامٍ واحدٍ: وہ ابھی تک ایک ہی طریقہ پر چل رہا ہے۔ ـ من الرمل: ریت کا ڈھیر۔ من الجراد والنخل ونحوها: ٹڈیوں یا کھجور کے درختوں کی قطار۔ ـــ جمع نُظُم: موتیوں کی لڑی کا دھاگا۔ نظامُ الامر جمع نُظُم وأنْظِمَة وأناظیم: دارومدار، نظام، کوبرنیك (فلك): کوپرنیک کا نظریہ کہ زمین اپنے گرد گھومتی ہے اور زمین اور سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ جبکہ بطلیموس کے نظریہ کے مطابق سورج اور سیارے اور ستارے زمین کے گرد گردش کرتے ہیں۔ النظامان والأنظامان والأُنْظُومتان جمع اَنَاظِیم من السمكة او الضبة: مچھلی یا چھپکلی میں دم سے کان تک دو سفید دھاریاں۔ العسكر النظامی: منظم اور جنگ کی تربیت حاصل کردہ فوج۔ النَظَّام: بہت پرونے والا۔ النَظِیم: موزوں شعر وغیرہ۔ الأُنْظَام: لڑی کا دھاگا، مچھلی یا چھپکلی کی انڈے دانی میں انڈوں کی قطار، ریتلی پہاڑیوں کی قطار، المَنْظِم جمع مَنَاظِم: ترتیب دینے کی جگہ۔ المنظوم (مفع) شعر۔

○ نَظَمَ ـِ نَظْمًا ونِظامًا ونَظّمَ ہ: موتی پرونا، کو ترتیب سے رکھنا، کو قرینے یا سلیقے سے لگانا، کی صف بندی کرنا، کو ترتیب دینا، کی درجہ بندی کرنا، کو مسل میں

لگانا، کا سر ٹھیک کرنا، کو تیار کرنا، کو ٹھیک کرنا، کی تصحیح کرنا، کو یکجا کرنا، ٹولیوں میں ٹولی بنانا، ٹولیوں میں بانٹنا، کو اکٹھا کرنا (کمی وغیرہ) پوری کرنا، کو منظم کرنا، کو شاندار طریقے سے کرنا، شعر کہنا، کو ترتیب دینا، سنوارنا، موزوں کرنا، نظم کرنا، شعر لکھنا۔ تَنَظَّمَ و تَنَاظَمَ: پرویا جانا۔ ترتیب پانا، اچھی ترتیب میں ہونا، اچھی طرح منظم ہونا۔ انتظم بمعنی تَنَظَّمَ و تناظم نیز اِنْتَظَمَ: درجہ بندی میں ہونا۔ — فی: سے ملحق ہونا، کسی تنظیم میں شامل ہونا۔ ہ/ھ: میں بھر جانا، میں سرایت کرنا، میں رچ بس جانا، میں پھیل جانا، — ہ: پر غالب آنا، کو زیر کرنا، پر قابو پانا، پر قبضہ کرنا۔

نظم: ترتیب، انتظام، نظام، طریق، طرز، دستور، رواج، تنظیم، موتیوں کی لڑی، نظم، منظوم چیز، موزوں کلام، شعرگوئی، اشعار۔ نظام جمع نظامات و نُظُم و أنْظِمَة: مناسب انتظام، باقاعدگی، مطابقت، موافقت، موزونیت، التزام، باضابطہ بنیادی ڈھانچہ، تنظیم، ترتیب، طریقہ، اسلوب، قاعدہ، نظام، تحریری قانون، قاعدہ، قانون، ضابطوں اور قاعدوں کا نظام، علی هذا النظام: اس طرح۔ نظام الاجانب: غیر ملکی حیثیت۔ نظام الاحوال الشخصية: انفرادی، نجی یا ذاتی تحریری قانون، نظام أساسي: (بنیادی) آئینی قانون، آئین، دستور، نظام اقتصادي: معاشی نظام۔ نظام البادية: زرعی نظام۔ نظام البوليس والادارة: پولیس اور انتظامی نظام۔ نظام جوازات السفر: پاسپورٹ سسٹم، نظام الحياة: طرز زندگی۔ النظام الرأسمالي: سرمایہ دارانہ معاشی نظام۔ النظام العام: عام نظم و ضبط۔ نظام المرور: آمدورفت (ٹریفک) کے قوانین۔ نِظَامي: پرامن، باقاعدہ، عام طریقے کے مطابق، منظم، باقاعدہ (فوج)، تنظيم: ترتیب، دوبارہ ہم آہنگی، دوبارہ تنظیم، اصلاح، کنٹرول، قاعدہ، ترتیب۔ فوج کا فن، مصافیات، تدبیر، سڑک کی تعمیر، تنظيم المرور: ٹریفک کنٹرول، اعادة التنظيم: دوبارہ تنظیم، انتظام، ترتیب، باقاعدگی، باضابطگی، باقاعدہ ترتیب، بانتظام: باقاعدہ، مقررہ، بالترتیب، باضابطہ، دانستہ، بالمقصد، درست، عام، ناظم: ترتیب دینے والا، تنظیم کرنے والا، قرینہ سے لگانے والا، ضابطہ، حرکت کو منظم رکھنے والا، شعر کہنے والا، نظم کرنے والا، شاعر جمع نواظم: دریا پر بنایا جانے والا بند، پشتہ، منظوم: ترتیب دیا ہوا، باترتیب، باضابطہ، باقرینہ، صاف ستھرا، وزن اور بحر میں کہا ہوا، شاعرانہ، نظم، منظومات اشعار، شعری تخلیقات۔ منظومة: نظم میں لکھا ہوا مقالہ، پند آموز نظم، قطار، صف، درجہ، عہدہ۔ مُنَظِّم: ترتیب دینے والا، تنظیم کرنے والا، ترقی دینے والا، ضامن، جیش مُنَظَّم: باقاعدہ فوج، غیر مُنَظَّم: بے قاعدہ۔ مُنَظَّمة جمع مُنَظَّمات: تنظیم، منظمة التغذية والزراعة: خوراک اور زراعت کی انجمن، F.A.O (Food and Agriculture Orgenization)۔ مُنْتَظِم: باقاعدہ، یکساں، ایک سا، لگاتار، متواتر، مسلسل، موجات منتظمة: یکساں لہریں۔

نعّ: ا۔ النعّ: کمزور مرد، النُّعاع واحد نُعَاعة: نرم و نازک گھاس، نبات۔

۲۔ نَعْنَعَ لِسانُ فلانٍ: کی زبان میں ہکلاپن ہونا۔ تَنَعْنَعَ الشيءُ: مضطرب ہونا، لڑکھڑانا، ڈگمگانا، — عنه: سے دور ہونا، النَّعْنَع واحد نَعْنَعة (ن): پودینہ۔ النُّعْنُعة: جانور کا پوٹا۔ النَّعْنَاع واحد نَعْنَاعة (ن): پودینہ۔ النَّعْنُوع: تازہ، نرم، لطیف۔ ولدٌ نعنوع: نرم و نازک لڑکا۔ بنت نعنوعة: نرم و نازک لڑکی۔

نعب: نَعَبَ ـَ نَعْبًا و نُعَابًا و نَعِيبًا و نَعَبَانًا و تَنْعَابًا الغرابُ: کوے کا کائیں کائیں کرنا، جدائی سے ڈرانا۔ — المؤذِّنُ: موذن کا اپنی گردن لمبی کر کے اذان دینا۔ — نَعَبَاتِ الابلُ: اونٹوں کا چلتے ہوئے گردنیں دراز کرنا۔ النَّعْب مص۔ ریحٌ نعبٌ: تیز ہوا۔ ناقةٌ ناعِبةٌ جمع نَوَاعِب و نعوبٌ جمع نُعُب: تیز رفتار اونٹنی۔ النَّعَّاب: مبالغے کا صیغہ (ح) کوے کا بچہ۔ ناقةٌ نعّابة: تیز رفتار اونٹنی۔ المِنْعَب والمُنْعِب: تیز رفتار اونٹنی، تیز رفتار گھوڑا جو کوے کی طرح اپنی گردن دراز کرتا ہے۔ چلانے والا بے وقوف۔

○ نعّاب: کائیں کائیں کرنے والا، منحوس، بدشگونی دینے والا۔

نعت: نَعَتَ ـَ نَعْتًا ہ: کی تعریف کرنا، کو بیان کرنا۔ — الکلمة: لفظ کی صفت لانا۔ نَعُتَ ـُ نَعَاتَةً: اچھی صفات دکھانا۔ نَعُتَ ـُ نَعَاتَةً الرجلُ: پیدائش سے ہی اچھی صفات والا ہونا۔ — الفرسُ: گھوڑے کا تیز رفتار ہونا۔ انْعَتَ الرجلُ: خوبصورت چہرے والا ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا۔ تَنَعَّتَ الشيءَ: کا وصف بیان کرنا۔ تَنَاعَتَ القومُ الناسَ: لوگوں کا کسی کی تعریف کرنا۔ انْتَعَتَهُ: کی تعریف کرنا۔ — ت المرأةُ بالجمال: عورت کا خوبصورتی سے متصف ہونا۔ إسْتَنْعَتَهُ الشيءَ: سے چیز بیان کرنے کی درخواست کرنا۔ النَّعْت (مص) جمع نُعوت: صفت والنَّعْتة والنَّعيت والنَّعيتة والمُنْتَعِت مِن الخيل: گھوڑ دوڑ میں سبقت لیجانے والا گھوڑا۔ شيٌ نَعْتٌ: بہت عمدہ چیز، هو نُعْتةٌ: وہ بہت اونچا یا خوبصورت ہے۔

○ نَعَتَ ـَ نَعْتًا ہ/ہ: کا ذکر کرنا، کو بیان کرنا، کی خاصیت بیان کرنا، کا امتیازی وصف بیان کرنا۔ — ہ: کی صفت ہونا۔ نَعْت: بیان، وصف، خوبی، سیرت، یا خصلت نگاری، جمع نُعوت: خصوصیت، خاصیت، وصف، خصلت، صفت، خاصہ، گن، طبعی خصوصیت، نمایاں صفت، فطرت، خو، عادت، توصیحی، تعریفی اور صفت سے متصف کرنے والا لفظ صفت، وصف، خاصہ، لقب، نام۔

نعث: ا۔ نَعَثَ ـَ نَعْثًا و انْعَثَ الشيءَ: کو لینا۔ انْعَثَ في مالِه: مال میں فضول خرچی کرنا، مال کو بے جا صرف کرنا۔ — الرجلُ: سفر کیلئے سامان لینا۔ — القومُ: کام میں جدوجہد کرنا۔

۲۔ نَعْثَلَ الشيءَ: کو جمع کرنا۔ — الفرسُ في جريه: تیز دوڑنے سے گھوڑے کا پاؤں پر بیٹھ جانا۔ النَّعْثَل: بے وقوف بوڑھا۔ (ح) نر بجو۔ النَّعْثَلة: حماقت، بوڑھے کی چال۔

نعج: نَعَجَ ـُ نَعَجًا و نُعُوجًا اللونُ: رنگ کا خالص سفید ہونا۔ نَعِجَ ـَ نَعَجًا و نُعوجًا اللونُ: رنگ کا خالص سفید ہونا۔ — نَعَجًا البعيرُ: اونٹ کا موٹا ہونا۔ — الرجلُ: بھیڑ کا گوشت کھا کر بدہضمی میں مبتلا ہونا، صفت نَعِج۔ انْعَجَ القومُ: موٹے اونٹوں والے ہونا۔ النَّعَج (مص): خالص سفیدی۔ النَّعْجة جمع نِعاج ونَعَجات (ح): بھیڑ۔ الناعِجة جمع نواعِج من النساء او النون: سفید رنگ عورت یا اونٹنی۔

۲۔ نَعَجَ ـَ نَعْجًا و نُعوجًا و نُعُوجات الناقةُ في سيرها: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔ ناقةٌ ناعِجةٌ جمع نواعِج: تیز رفتاری اونٹنی جس پر بیٹھ کر جنگلی بھیڑوں کا شکار کیا جائے۔ أرضٌ ناعِجةٌ: نرم زمین، نِعاج الرمل: گائے۔

نعر: ا۔ نَعَرَ ـِ نَعِيرًا و نُعارًا الرجلُ: خراٹے لینا۔ — العِرقُ بالدم: رگ سے خون پھوٹ نکلنا، کہا جاتا ہے: نَعَرَ فلانٌ في قفا الإفلاس: وہ امیر ہو گیا، الناعِر فا: کہا جاتا ہے: كلّما نَعَرَ بهم ناعِرٌ اتبعوهُ: جب بھی کسی نے انہیں چیخ چیخ کر فساد کی طرف دوڑنے کیلئے پکارا وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ النّاعُور: رگ یا زخم جس سے خون پھوٹ کر نکل رہا ہو۔ چکی کا پاٹ۔ — والناعورة جمع نواعير رہٹ۔ — النَّعْرة جمع نَعَرات: نعر کا اسم مرة۔ نتھنوں

سے آواز نکالنا نعرۃُ النجم: ہوا کا جھونکا اور گرمی کی شدت جو طلوع ثریا کے وقت ہوتی ہے۔ النُّعَرَۃ والنُّعرۃ جمع نُعَر و نُعَرات: ناک، نتھنا۔ النَّعّار م نَعّارَۃ: چیخنے والا، شور مچانے والا۔ (ح) ایک قسم کا پرندہ، رگ یا زخم جس سے خون پھوٹ نکلے۔ النَّعّارَۃ: دستے والا مٹی کا لوٹا۔ امرأۃ نَعّارَۃ: شور مچانے والی بدزبان عورت۔ النَّعُور: رگ یا زخم جس سے خون پھٹ کر نکل رہا ہو۔ النَّعِیر (مص) لڑائی وغیرہ کی چیخ و پکار۔

۲۔ نَعَرَ ـ نَعْرًا فی البلاد: ملک میں جانا۔ ـ القومُ: جوش میں آنا، جمع ہونا۔ ـ الی فلان: کے پاس آنا، کہا جاتا ہے: من اینَ نعرتَ الینا؟: تم کہاں سے ہمارے پاس آئے؟ ـ فی الامر: کسی کام کیلئے اٹھنا، کوشش کرنا۔ ـ الرجلُ: مخالفت کرنا، انکار کرنا۔ نَعِرَ ـ نَعَرًا الحمارُ او الفرسُ: گدھے یا گھوڑے کی ناک میں مکھی گھس جانا اور اس کا بےچین ہونا۔ صفت نَعِر۔ نَعَّرَ السهمَ: تیر کی سیدھ دیکھنے کے لئے اسے ناخن پر گھمانا۔ انْعَرَ الاراکُ: درخت پیلو کا پھلدار ہونا۔ النَّعِر م نَعِرَۃ: ایک جگہ نہ ٹھہرنے والا۔ ـ النَّعَرۃ: تکبر، غرور، مہتم بالشان کام۔ النُّعَرۃ: مندرجہ بالا معنی۔ ـ جمع نُعَر و نُعَرات: ہوا جو ناک میں داخل ہو کر اسے ہلائے۔ (ح) ایک قسم کی بڑی مکھی نیلے رنگ کی جو جانوروں پر گر کر انہیں تکلیف پہنچاتی ہے اور گھوڑوں اور گدھوں کی ناکوں میں گھس کر ایذا دیتی ہے۔ پیلو کے درخت کا پھل۔ النَّعّار م نَعّارَۃ: باغی، فتنہ انگیز۔ النَّعُور من الریاح: ہوا جو گرمی میں اچانک سردی اور سردی میں گرمی لے آئے۔ نِیَّۃٌ نَعُورٌ: دور کی نیت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ نَعِیرُ الهمّ: فلاں شخص جو پیش از وقت منصوبے باندھنے والا ہے۔

○ نَعَرَ ـ نَعِیرًا و نُعارًا: غرانا، چیخنا، چلانا، دھاڑنا، چنگھاڑنا، گرجنا، ڈکرانا، جاں فشانی سے کام کرنا (زخم سے) خون پھوٹ نکلنا۔ نَعْرَۃ: شور، شور و غل، شور و غوغا، گرج، دھاڑ۔ نُعْرۃ: ناک۔ نُعَرَۃ: جمع نُعَرات و نُعَر: گھوڑوں کو تنگ کرنے والی مکھی، بڑ مکھی، گھو مکھی۔ نَعَرَۃ و نُعَرَۃ جمع نعرات: غرور، کبر، نخوت، اکڑ، اکڑفوں، ہیکڑی، خود پسندی، فخر و مباہات، فخر و ناز۔ نعرۃ إقلیمیۃ: جنگجویانہ وطن پرستی، نَعّار: شور مچانے والا، گڑبڑ والا، گلا پھاڑ پھاڑ کر کہنے والا، تحریک میں حصہ لینے والا، بھیڑ کو برانگیختہ کرنے والا۔ نَعِیر: شور، شور و غل، شور و غوغا، چلانا، ڈکارنے والا، گائے کی آواز نکالنے والا، ڈکرانے والا، نَعّارہ: مٹی کا لوٹا، برتن۔ ناعُور: رگ یا زخم سے خون کا پھوٹ نکلنا۔

نعس: نَعَسَ ـ نَعْسًا الرجلُ: اونگھنا صفت ناعِس جمع نُعَّس م ناعِسَۃ جمع ناعِسات و نَواعِس۔ ـ جسمُهُ او رأیُهُ: جسم یا رائے کا کمزور ہونا۔ ـ السوقُ: بازار کا ٹھنڈا یا ماند پڑنا، کساد بازاری ہونا۔ انْعَسَ ہُ: کو سلانا۔ ـ فلانٌ: سست بیٹوں والا ہونا۔ تَناعَسَ: سونے یا اونگھنے کا بہانہ کرنا۔ ـ البرقُ: بجلی کا سست ہونا۔ ـ السوقُ: بازار کا ٹھنڈا یا ماند پڑنا۔ النُّعاس: اونگھ، حواس کی سستی۔ پہلی نیند۔ النَّعْسان م نَعْسَی: اونگھنے والا امرأۃٌ نَعْسَۃ و نَعُوسٌ: اونگھنے والی عورت۔

نعش: نَعَشَ ـ نَعْشَهُ اللّٰهُ: کو اللہ تعالیٰ کا بلند کرنا، اٹھانا، ہلاکت سے بچانا، فقیری کے بعد دولت مندی نصیب کرنا۔ ـ الربیعُ الناسَ: فصل ربیع کا لوگوں کو خوشحال کرنا، زندہ کرنا۔ ـ المیتَ: میت کا ذکر جمیل کرنا۔ طَرْفَہٗ: کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔ ـ الشجرۃَ: جھکے ہوئے درخت کو سیدھا کرنا۔ نُعِشَ: تابوت پر اٹھایا جانا صفت منعوش۔ ـ فلانٌ: پھسلنے کے بعد اٹھایا جانا۔ نَعَّشَ ہُ اللّٰهُ: کو اللہ کا بلند کرنا، اٹھانا۔ ـ فلانٌ فلانًا: کو نَعَشَكَ اللّٰه من عثرتك کہنا۔ یعنی اللہ تجھے پھلنے کے بعد اٹھائے انْعَشَ ہُ اللّٰهُ: کو اللہ کا بلند کرنا، اٹھانا۔ اِنْتَعَشَ: سستی کے بعد چست ہونا، سر اٹھانا۔ ـــ من سقطتہ: گرنے کے بعد اٹھنا۔ اِسْتَنْعَشَ: سستی کے بعد چست ہونا۔ النَّعْش (مص): بقا، وہ چارپائی جس پر بادشاہ کو بیمار ہونے کے بعد اٹھاتے تھے، تابوت۔ بناتُ نَعْشٍ الکبرٰی (فلك): قطب شمالی کے رخ دیکھے جانے والے سات ستارے، ان کے قریب سات اور ستارے ہیں جنہیں بنات النعش الصغری کہا جاتا ہے۔ جو ستارا بڑا دکھایا جاتا ہے قطبی ستارہ ہے جس سے قطب شمالی کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔

○ نَعَشَ ـ نَعْشًا و نَعَّشَ و انْعَشَ: اٹھانا، ہوش میں لانا، تازہ کرنا، پھر سے پیدا کرنا ـ ہ: (کی یاد) تازہ کرنا، میں جان ڈال دینا، کو تقویت پہنچانا، کی ہمت بندھانا، کو جوش دلانا، کو جگانا، اٹھانا، ابھارنا، ہوشیار کرنا، میں تحریک پیدا کرنا، ہیجان پیدا کرنا۔ اِنْتَعَشَ: گرنے سے اٹھنا، صحت یاب ہونا، تازہ دم ہونا، تقویت پانا، نئی زندگی پانا۔ نَعْش: تابوت، بنات نعش الصغری: دب اصغر۔ بنات نعش الکبری: دب اکبر۔ نَعْشَۃُ الموت: موت کا گیت، نفس کا آخری نغمہ۔ انتعاش اقتصادی: اقتصادی قیمت میں اضافہ کرنا، انتعاش: پھر شاداب ہو کر پھوٹنا، حیات نو، جان ڈالنا، جذبہ، جوش، تقویت پہنچانا، ہیجان، تحریک، تر و تازگی، آسودگی، تفریح۔ مُنْعِش: حرکت پیدا کرنے والا، جان ڈالنے والا، زندہ کرنے والا، تازہ دم کرنے والا، شاداب کرنے والا، تقویت پہنچانے والا۔ شفا بخش، قوت بخش، مقوی (دوا)۔

نعص: نَعَصَ ـ نَعْصًا الشیءَ: کو حرکت دینا، ـ الجرادُ الارضَ: ٹڈیوں کا نباتات کھا جانا۔ نَعِصَ ـ نَعَصًا: جھکنا۔ اِنْتَعَصَ: حرکت کرنا، ـ الرجلُ: گرنے کے بعد اٹھنا، غضبناک ہونا۔ النّاعِصَۃ: معاونین و مددگار۔

نعط: انْعَطَ الآکِلُ: کھانے والے کا آدھا لقمہ کھانا اور آدھا ڈال دینا۔ النُّعُط واحد ناعِط: کھانے اور دادو دہش میں بدتمیز لوگ۔

○ نَعَظَ ـ نَعْظًا و نَعَظًا و نُعُوظًا: (آلہ تناسل کا) سیدھا کھڑا ہونا۔ انْعَظَ: جنسی طور پر مشتعل ہونا۔ ناعُوظ: جنسی خواہش برانگیختہ کرنے والا، جنسی طور پر ہیجان پیدا کرنے والا، جنسی محرک، نشاط انگیز، شہوت انگیز۔

نعف: ناعَفَ مُناعَفَۃً ہُ: دو راستوں میں چل کر ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرنا۔ ـ ہُ الطریقَ: کا راستہ روکنا، کو سے باز رکھنا۔ انْعَفَ: بلند جگہ بیٹھنا۔ اِنْتَعَفَ: بلند جگہ پر چڑھنا۔ ــ الشیءَ: کو دوسرے کے لئے چھوڑ دینا۔ ـ لفلانٍ: کے درپے ہونا۔ ــ الراکِبُ: سوار کا ظاہر ہونا۔ النَّعْف جمع نِعاف: وادی سے بلند اور پہاڑ سے پست ہموار جگہ۔ ـ من الرملۃ: ریت کا اگلا یا پتلا حصہ۔ النَّعْفَۃ: پاؤں کی پشت پر جوتے کا تسمہ۔ النَّعَفَۃ: گیسو، شملہ، گوشت میں خراب گرہ، کجاوے کے تسمے۔ اُذُنٌ ناعِفَۃٌ و نَعُوفٌ: ڈھیلا کان۔ المُنْتَعَف: سخت اور نرم زمین کے درمیان کی حد۔ اذنٌ مُنْتَعِفَۃ: ڈھیلا کان۔ المَناعِف من الجبال: پہاڑوں کی چوٹیاں

نعق: نَعَقَ ـ نَعْقًا و نَعِیقًا و نُعاقًا و نَعَقانًا الغرابُ: کوے کا کائیں کائیں کرنا۔ ـ المؤذّن: موذن کا بلند آواز سے اذان دینا۔ ـ الراعی بغنمہ: چرواہے کا اپنی بکریوں کو ڈانٹنا اور للکارنا۔ النَّعّاق: بہت کائیں کائیں کرنے والا، النّاعِقان (فلك): جوزا کے دو ستارے۔

○ نَعَقَ ـ نَعْقًا و نَعِیقًا: کوے کا کائیں کائیں کرنا۔ (بھیڑ کا) بھیں بھیں یا میں میں کرنا۔ ـ: چیخنا، چلانا، خوف یا غصے سے چلا اٹھنا۔ کلُّ ناعِقٍ و ناعرٍ: ہر

زندہ اور چلنے پھرنے والا، ہر شخص اور اس کا بھائی، ہر ایک ہمہ شما، ایرے غیرے نتھو خیرا۔

نعل: نَعَلَ ۔ نَعْلاً القومَ: لوگوں کو جوتے عطا کرنا۔ ۔ الدابّۃَ: جانور کے نعل لگانا۔ نَعِلَ ۔ نَعَلاً: جوتے پہننا۔ نَعَّلَ و اَنْعَلَ الدابّۃَ: جانور کو نعل لگانا۔ تَنَعَّلَ و اِنْتَعَلَ: جوتے پہننا۔ ۔ الثوب: کپڑا روندنا۔ کہا جاتا ہے: اِنْتَعَلَ الارضَ: ننگے پاؤں سفر کرنا۔ النّاعِل (فا): بہت جوتوں والا، گورخر۔ رجُلٌ نَاعِلٌ: جوتے والا۔ حافِرٌ نَاعِلٌ: سخت کھر۔ النَّعْل (مص) جمع نِعَال و اَنْعُل: جوتا، پیر کا تلوا۔ مونث اس کی تصغیر نُعَیْلَۃ ہے۔ نَعْلُ الدابّۃ: جانور کا نعل۔ جمع نِعال: تلوار کے میان کا لوہے یا چاندی کا سرا، سخت و بنجر زمین، کہا جاتا ہے۔ اخضرّت نِعالُ القومِ قوم کی زمین سرسبز ہوگئی۔ النَّعْلَۃ ہر وہ چیز جس سے قدم کو زمین سے بچایا جائے۔ جیسے جوتا۔ النَّعّال: نعل بند۔ المَنْعَل و المَنْعَلَۃ: سخت زمین۔ مکانٌ مُنْعَلٌ و ارضٌ مُنْعَلَۃ: سخت جگہ سخت زمین۔ المُنْعَل: جوتے والا۔ فرسٌ مُنْعَل سخت نعل والا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے رماہُ بالمُنْعِلات: اس نے اس پر مصیبتیں ڈالیں۔

○ نَعْل جمع نِعالٌ و اَنْعُل: سینڈل، جوتا، نعل۔ نَاعِل: بوٹ والا، جوتے میں تلے لگا ہوا۔

نعم ا۔ نَعَمَ ۔ نُعْمَۃً و مَنْعَمًا الرجلُ: خوشحال ہونا۔ ۔ عیشُہُ: کی زندگی کا اچھا، عمدہ اور فراخ ہونا، کہا جاتا ہے: ھذا منزلٌ ینعمھم: یہ مکان ان کے موافق ہے اور خوشگوار ہے۔ نَعِمَ ۔ نَعْمَۃً و مَنْعَمًا الرجلُ: خوش حال ہونا۔ ۔ عیشُہُ: کی زندگی کا اچھا عمدہ اور فراخ ہونا کہا جاتا ہے: نَعِمْتُ بھذا عینًا: میں اس سے خوش ہوا۔ نَعِمَکَ اللّٰہ عینًا و نَعِمَ اللّٰہ بکَ عینًا: خدا تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرے اور تمہارے محبوب کو تم سے خوش کرے۔ عینًا کا نصب تمیز کے طور پر ہے۔ نَعِمًا العودُ: لکڑی کا سرسبز و تر و تازہ ہونا۔ نَعُمَ ۔ نُعُومَۃً: نرم و ملائم ہونا۔ صفت نَاعِم۔ نِعْمَ: غیر منصرف فعل۔ نِعْمَ الرجلُ زیدٌ و نِعْمَ رجُلاً زیدٌ: زید اچھا آدمی ہے۔ ثنی اور جمع کا استعمال نادر ہے کہا جاتا ہے۔ نِعْمَا و نِعْمُوا و نِعْمَتَا و نِعْمَن: کبھی اس پر ما داخل ہوتا ہے، تو صلہ سے قناعت کی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں۔ دققتہٗ دقًّا نِعِمًّا: تم نے جو احتیاط سے کیا تو اچھا کیا۔ اِنْ فعلتَ فبِھا و نِعْمَتْ: اگر تم نے کیا تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ نَعَّمَ الشئَ کو نرم و ملائم بنانا۔ ۔ الرجلَ کو خوش حال کرنا۔ کو نَعَم (ہاں) کہنا۔ ۔ القومَ لوگوں کے پاس ننگے پاؤں آنا۔ ناعَمَ مُناعَمَۃً الرجلُ: آسودہ حال ہونا۔ ۔ الرجلَ کو آسودہ حال بنانا۔ ۔ الحبلَ وغیرہ کو رسی وغیرہ کو مضبوط کرنا۔ اَنْعَمَ الشئَ کو نرم و ملائم کرنا۔ ۔ فلانًا کو آسودہ حال کرنا یا بنانا۔ اَنْعَمَ اللّٰہ صباحَکَ: خدا تمہاری صبح اچھی کرے، صبح بخیر، امر کے طور پر کہا جاتا ہے۔ اَنْعِمْ صباحًا اکثر کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ اور نون محذوف ہوتے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے: عِمْ صَبَاحًا او عِمْ مساءً ا: (خدا تمہاری صبح یا شام اچھی کرے)۔ ۔ اللّٰہُ النعمۃَ علیہ و اَنْعَمَہٗ بالنعمۃ: کو اللہ کا نعمت سے نوازنا۔ ۔ اللّٰہ بکَ عینًا اللہ تمہاری وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے جس کو تم محبوب رکھتے ہو یا تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی کرے جس کو تم محبوب رکھتے ہو۔ ۔ الرجلُ زیادہ کرنا، نعمت کو پہنچنا۔ کہا جاتا ہے: ھذا منزلٌ یُنْعِمُ: یہ گھر بہت خیر والا اور موافق ہے۔ ۔ لہٗ: کو نَعَم (ہاں) کہنا۔ ۔ القومَ لوگوں کے پاس ننگے پاؤں آنا۔ ۔ صدیقَہٗ: دوست کو ننگے پاؤں رخصت کرنا۔ ۔ فی الامر: کام میں مبالغہ کرنا، اچھی طرح کرنا۔ ۔ النظرَ فی المسالۃ: مسئلہ پر غور کرنا۔ تَنَعَّمَ الرجلُ: آسودہ زندگی گزارنا، ننگے پاؤں چلنا۔ ۔ قدمَیہ: کو مشغول کرنا۔ ۔ الدابّۃَ: جانور کو خوب اچھی طرح ہانکنا۔ ۔ فلانًا بالمکان کو میں ڈھونڈنا، کہا جاتا ہے: اتیتُ ارضھم فتنعّمَتْنی میں ان کی زمین پر آیا تو وہ میرے موافق اور خوشگوار ہوئی۔ تَنَاعَمَ: خوش حال ہونا۔ النَّاعِم (فا) اچھی طرح پیسا ہوا۔ بُنٌّ ناعِمٌ و تراب ناعم نرم قہوہ، مٹی۔ ۔ من الثیاب: ملائم کپڑا۔ ۔ من العیش آسودہ زندگی۔ ۔ من النبات سیدھا ہموار پودہ۔ النّاعِمۃ ناعم کا مونث۔ آسودہ زندگی والی، باغ ۔ ن: ساج، خوشبودار سبزی۔ النُّعْم جمع اَنْعُم خوشحال، کہا جاتا ہے: ھذا یومُ نُعْمٍ: یہ خوشگوار دن ہے۔ سافعلہ نُعْمَ و نُعْمَ عینٍ: میں اسے آپ کی تکریم کیلئے کروں گا۔ النَّعَم جمع اَنْعام و جمع اناعیم: اونٹ، گائیں، بکریاں۔ النَّعْمَۃ: اسم مرۃ۔ تمتع و تنعم، آسودگی، لطف اندوزی۔ نَعْمَۃُ العیش آسودگی، مرفہ الحالی، تونگری، دولت کی بہتات، کہا جاتا ہے: سافعلہ نَعْمَۃَ عینٍ: میں اسے آپ کی خوشی کیلئے کروں گا۔ النِّعْمۃ جمع نِعَم و اَنْعُم و نِعْمَات و نِعِمات: فائدہ، فضل و کرم، انعام، مسرت حالت جس سے انسان لطف اندوز ہو۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ واسِعُ النعمۃ: فلاں شخص بہت مالدار ہے۔ النُّعْمَۃ خوشی۔ نُعْمَۃُ العین: آنکھ کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے سافعلہ نُعْمَۃَ عینٍ: میں اسے تمہارے اکرام کے لئے کروں گا۔ النَّعام: شترمرغ، بیابان۔ ۔ الصّادِر (فلک): چار ستارے۔ ۔ الوارد دوسرے چار ستارے۔ جو چاند کی ایک منزل ہیں۔ کہا جاتا ہے: سافعلہ نَعَامَ و نُعَامَ و نِعامَ عینٍ: میں اسے تمہارے اکرام کیلئے کروں گا۔ النَّعامَہ: اکرام، خوشی، قدم یا قدم کا تلوا، نفس، تاریکی، جہالت، واضح راستہ، بیابان میں بلند کیا ہوا جھنڈا (رہنمائی کیلئے) پہاڑ پر سائبان نما عمارت، دماغ کی جھلی، لوگوں کی جماعت۔ ۔ جمع نَعام و نَعامات و نَعائم (ح): شترمرغ (مذکر و مونث)، مذکر کو ظلیم اور شترمرغ کے گلہ کو بنات الھَیق کہا جاتا ہے، بیوقوفی اور بھاگنے میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ ابنُ النَّعامۃ: پنڈلی کی ہڈی، کہا جاتا ہے۔ نَفَرَتْ نَعامَتُہٗ: وہ مرگیا یا کوچ کر گیا۔ جاءَ کالنعامۃ: وہ محروم لوٹا۔ رَکِبَ جناحَی النعامۃ: اس نے اپنے کام میں کوشش کی۔ شالَتْ نعامتُہٗ: وہ مر گیا۔ شالت نعامۃُ القومِ لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر ادھر ادھر ہوگئے۔ انہ لخفیفُ النَّعامۃ: وہ ضعیف العقل ہے۔ اصمُّ من نعامۃ شترمرغ سے زیادہ بہرہ۔ النُّعْمَا جمع اَنْعُم: بابرکت ہاتھ۔ النُّعْمان: حیرہ کے بادشاہ کا لقب، خون۔ شقائقُ النُّعْمان واحد شقیقۃُ النعمان (ن) جنگل لالہ۔ النُّعْمَی: بابرکت ہاتھ، نرم دلی، حلم، آسودہ زندگی، مال، کہا جاتا ہے: سافعلہ نُعْمَی عینٍ: میں اسے تمہاری خاطر کروں گا۔ النُّعامَی جمع نَعائِم: جنوبی ہوا، کہا جاتا ہے۔ نُعْمَاکَ اَن تفعل کذا: آخر کار تم یہ کرو گے۔ سافعلہ نُعامَی عین: میں اسے تمہاری خاطر کروں گا۔ النَّعائِم (فلک): چاند کی ایک منزل جو آٹھ ستاروں سے مرکب ہے اس کی اور شترمرغ کی ایک سی شکل دکھائی دیتی ہے۔ الاِنْعام: اَنْعَمَ کا مصدر جمع اِنعامات: انعام۔ الاِنْعامَۃ: انعام، عطیہ۔ النُّعُومَۃ (مص) ملائمت۔ النَّعِیم: آسودہ حالی، آرام، مال۔ رجُلٌ نَعِیمُ البال: پرسکون شخص۔ سافعلہ نعیمَ عینٍ: میں اسے تمہاری خاطر کروں گا۔ نعیمُ اللّٰہ اللہ کا فضل۔ المِنْعام: بڑا فیاض۔ المُنْعَم: جھاڑو۔ المُنَاعِم و المُتَنَاعِم من النبات: سیدھا ہموار پودہ۔ المُناعَم و المُتَناعِم و المُتَنَعِّم: خوش حال، مالدار۔ المُنَعَّم: خوش حال، مالدار۔ کلامٌ مُنَعَّم: نرم گفتگو۔

۲۔ نَعَم نیز نَعِم و نِعِم و نَعَام و نَعَمْ بھی کہا جاتا ہے، حرف جواب ہے۔ اس کے چار معنی ہیں:۔

۱۔ خبر کے بعد حرف تصدیق ہوتا ہے، مثلاً قام زیدٌ کے جواب میں نعم قام کا معنی دیتا ہے۔ (زید کھڑا ہوا ہاں (زید کھڑا ہوا)۔

۲۔ امر و نہی کے بعد اگر واقع ہو تو حرف وعدہ ہوتا ہے، جیسے: اضرب زیدًا (زید کو مار) اس کے جواب میں نعم کا معنی ہوگا: میں تم سے زید کو مارنے کا وعدہ کرتا ہوں۔

۳۔ استفہام کے بعد تو حرف اعلام ہوتا ہے۔ جیسے أقام زیدٌ؟ کیا زید کھڑا ہوا؟ اس کے جواب میں نعم کا معنی ہوتا ہے میں تمہیں اس کے کھڑے ہونے کی اطلاع دیتا ہوں۔

۴۔ اگر صدر کلام میں آئے تو تاکید کے لئے ہوتا ہے جیسے نعم ان ربی قادر ہاں میرا پروردگار ایسا کر سکتا ہے

النَعَامة: تاریکی، کنوئیں میں اٹھا ہوا پتھر۔

○ أَنْعَمَ اللّٰہُ صَبَاحَكَ: صبح بخیر، گڈ مارننگ (Good Morning)۔ انعم النظر فی کو غور سے دیکھنا، کی جانچ پڑتال کرنا، کو توجہ سے دیکھنا، کے مطالعہ میں منہمک ہونا، پر غور کرنا۔ نِعْمَ الرجلُ زیدٌ: زید کتنا عمدہ مرد ہے۔ نِعْمَ الشبابُ شبابُهم: ان کے پاس کتنے حیرت انگیز جوان ہیں! انه نعم الخلیل: بلاشبہ وہ ایک حیرت انگیز دوست ہے۔

فَبِهَا وَنِعْمَتْ: اس صورت میں یہ بالکل ٹھیک ہے۔

نعم مافعلت: شاباش! نَعَمْ: ہاں، ہاں بے شک، یقیناً، واقعی سچ، پھر سے کہئے، معاف کیجئے میں نے سنا نہیں۔ بِنِعْمَةِ اللّٰہِ: اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے واسِعُ النعمة: بہت خوشحال، دولتمند، امیر، وَلِیُّ نِعْمَتِهٖ (نعمه): اس کا محسن۔ نُعْمیٰ: خوشی، سرور۔ نَعْمَاء: مہربانی، خیراندیشی، خیرخواہی، خیرسگالی، لطف وکرم، فی النعماء و الباساء: اچھے اور برے دنوں میں۔ نُعمان: خون، شقائق النعمان: ایک قسم کے پودے۔ نَعَام (اسم جنس واحد نعامة) جمع نَعَائِم: شتر مرغ، سنگ خور۔ نعیمُ اللّٰہ: اللہ کا لطف و کرم، فضل بخشش، رحمت، نعمت، برکت، مِن (منذُ) نعومة أظفاره: بچپن سے۔ أَنْعَم: نرم تر، ملائم تر۔

مِنْعام: فیاض محسن۔ مَنَاعِم: مہربانیاں، برکتیں، نعمتیں، عطایا، خوشگواریاں، سہولتیں، آرام پہنچانے والی چیزیں، خوشیاں۔ تنعیم: زیادہ لاڈ پیار کرنا، غیر معمولی خاطر مدارات کرنا، ناز برداری، کمزور بنانا، نامرد بنانا، بزدل بنانا۔ ناعِمُ الظُفر: نوجوان، نازک، نوعمر، سُکّر ناعِم: کھانڈ (Powdered Sugar) مُنْعِم عطا کرنے والا، محسن۔

نعو: نَعَا یَنْعُو نُعَاءً السنَّورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔

النَعْو: ناک کے نیچے کا دائرہ، اونٹ کے اوپر کے ہونٹ کا شگاف، گھوڑے کے سم کے موخر حصہ کی دراڑ، تازہ کھجوریں۔

نعی: نَعَی یَنْعَی نَعْیًا و نَعِیًّا و نُعْیَانًا لنا و الینا فلانًا: اس نے ہمیں فلاں شخص کی موت کی اطلاع دی کہا جاتا ہے: نعاهُ بموتِ فلان: اس نے اسے فلاں شخص کی موت کی اطلاع دی۔ ـ القومَ: لوگوں کو اپنی میت کی تدفین کے لئے بلانا۔ نَعَیْتُهُ الشئَ: میں نے اسے اس چیز کی اطلاع دی۔ ـ علی القوم شهواتهم: کی عیب گیری کرنا، کہا جاتا ہے: هو ینعی علی فلان ذُنُوبَهٗ: وہ اس کے گناہوں اور عیبوں کو ظاہر کرتا ہے اور انہیں شہرت دیتا ہے۔ فلانٌ یعنی فلانًا: کسی کا کسی سے قصاص طلب کرنا۔ فلان ینعی علی نفسهٖ بالفواحش: کسی کا اپنے جرائم کی تشہیر کرنا۔ أَنْعَی علیه شیئًا قبیحًا: کو اس کی بری بات پر طعنہ دینا۔ أَنْعَیْتُهُ الشئَ: میں نے اس کو اس کی خبر دی۔ تَنَاعَی القومُ: طلب قصاص پر اکسانے کے لئے مقتولین کے قتل کی اطلاع دینا۔ إِسْتَنْعَی القومُ: طلب قصاص پر اکسانے کیلئے مقتولین کے قتل کی اطلاع دینا، متفرق ہونا منتشر ہونا، ـ ذِکرُ فلان: کا ذکر مشہور ہو جانا۔ ـ الشرُّ بفلان: کے ذریعے برائی کا لگاتار واقع ہونا۔ الراعی الغنمَ: چرواہے کا آگے ہو کر بکریوں کو اپنے پیچھے بلانا۔ ـ حُبُّ الخمر به: میں شراب کی محبت کا دیر تک رہنا۔ الناعی (فا) جمع نَاعُون و نُعَاة و نُعْیَان: موت کی خبر لانے والا، طعن و تشنیع کرنے والا۔ نَعَاءِ: موت کی خبر دے۔ نعاءِ فلانًا: فلاں کی موت کی خبر ظاہر کر اور پہنچا۔ النَعِیَّة جمع نَعِیَّات: نَعْی کا اسم مرہ، موت کی خبر، اسے عام لوگ نَعْوَة: کہتے ہیں۔ النَعِیّ (مص): موت کی خبر دینے والا، جس کی موت کی خبر دی جائے۔ المَنْعَی و المَنْعَاة جمع مَنَاعٍ: موت کی خبر۔

○ نَعَی ـ نَعْیًا و نَعِیًّا و نَعیانًا الی: کو کسی کی موت کی اطلاع دینا، کیلئے کسی کی موت کا اعلان کرنا۔ ـ ہ علی: کے خلاف ثبوت رکھنا۔ ـ علی ہ کو پر ملامت کرنا، کو کا قصوروار ٹھہرانا۔ نَعَی ـ: ماتم کرنا، گریہ زاری کرنا۔ ـ ہ کا غم کرنا۔ نعی: کسی کی موت کا اعلان کرنے والا، الزام، ملامت۔ نَعِیّة جمع نَعِیَّات: کسی کی موت کی خبر۔ مَنْعی و مَنْعَاة جمع مَنَاعٍ: کسی کی موت کی خبر۔

نغب: نَغَبَ ـ نَغْبًا الریقَ: تھوک نگلنا، ـ الرجلُ فی الشرب: گھونٹ گھونٹ پینا۔ ـ الطائرُ: پرندے کا پانی پینا۔ النَغْبَة جمع نُغَب: گھونٹ۔ النُغْبَة: برا کام۔ جمع نُغَب: گھونٹ۔

○ نَغْبشة: شوروغل۔

نغت: نَغَتَ ـ نَغْتًا الشعرَ: بال کھینچنا۔

نغث: النَغْث: دائمی سخت مصیبت۔

نغر ۱: نَغَرَ ـ نَغِیرًا و نَغَرانًا القِدرُ: ہانڈی کا ابلنا۔ ـ نَغَرًا و نَغَرانًا الرجلُ علی فلان: پر غضبناک ہونا، صفت نَغِر (مذکر) نَغِرة (مونث) ـ الناقةَ: اونٹنی کو آواز دینا، بلانا۔

نَغِرَ ـ نَغِیرًا و نَغَرانًا القِدرُ: ہانڈی کا ابلنا۔ نَغَرًا و نَغَرانًا الرجلُ علی فلان: پر غضبناک ہونا۔ الناقةَ: اونٹنی کو آواز دینا، بلانا۔ ـ نَغَّرَ الرجلُ: کینہ رکھنا۔ نَغَّرَ بالناقةِ: اونٹنی کو آواز دینا، بلانا۔ ـ الصبیَّ: بچہ کو گدگدانا۔ تَنَغَّرَ الرجلُ: غضبناک ہونا۔ ـ علی فلان: پر دگرگوں ہونا، غضبناک ہونا، تَنَاغَرَ الرجلُ: بھیس بدلنا۔ النَغَر (مص): کھارے پانی کا چشمہ۔ النُغَر جمع نِغْران (ح): بلبل، چڑیوں کے بچے النَغّار: تیز مزاج، چڑچڑا، جرحٌ نَغّار: بہت خون بہانے والا زخم۔

۲۔ نَغِرَ ـ نَغَرًا مِن الماء: بہت پانی پینا۔

۳۔ أَنْغَرَتِ البیضةُ: انڈے کا گندہ ہونا۔

نغز: نَغَزَ ـ نَغْزًا الصبیَّ: بچہ کو گدگدانا۔ ـ بین القوم: قوم میں فساد ڈالنا، بعض کو بعض کے خلاف اکسانا۔ النَغّاز: فتنہ انگیز۔

○ نَغَزَ ـ نَغْزًاه: کو گدگدانا، گدگدی کرنا، کو سوئی وغیرہ چبھونا۔ ـ بین: کے درمیان نا اتفاقی کا بیج بونا، کے درمیان دشمنی بھڑکانا۔

نغش: ۱۔ نَغَشَ ـ نَغْشًا و نَغَشَانًا: بے قرار ہونا، ہلنا، کہا جاتا ہے: هو ینغش إلی فلان: وہ فلاں کی طرف مائل ہے۔ سُقِیَ فلان فنَغَشَ: بے ہوشی کے بعد ہلنا، حرکت کرنا۔ نَاغَشَ مُنَاغَشَةً ہ: سے بات چیت کرنا (عام زبان میں)۔ تَنَغَّشَ و انْتَغَشَ الشئُ: حرکت میں آنا بے قرار ہونا، کہا جاتا ہے: تَنَغَّشَ و انتغش المکانُ باهله و الرأسُ بالقمل: جگہ کا لوگوں سے اور سر کا جوؤں سے بھر جانا۔ النَغْشَة: حرکت، اضطراب۔

۲۔ النُغّاش: بزدل، ٹھگنا۔ ـ و النُغّاش و النُغَاشیّ: بہت چھوٹے قد والا، بہت پستہ قد، ٹھگنا۔

○ نَاغَشَ ہ: کے ساتھ کھیلنا، کو چھیڑنا، کو دق کرنا، تنگ کرنا،

کو اٹھلانا، سے جھوٹی محبت جتانا۔ نغاش و نغاشی بہت چھوٹا، بونا، بالشتیا، ٹھگنا، ناٹا، پستہ قد۔ نغاشۃ: ٹھٹھا کرنا، چھیڑ خانی کرنا، دل لگی کرنا، ٹھٹھا، مذاق، فقرہ بازی، تنگ کرنا، دق کرنا، خوش مزاجی، زندہ دلی، خوش وضعی۔

نغص: نغص ـَ نغصا: کو پانی کے حصہ سے روک دینا یا اس کے پینے میں حائل ہونا۔ نغِص ـــ نغصا البعیر: اونٹ کا سیراب نہ ہونا۔ ـــ الرجلُ: کی مراد پوری نہ ہونا۔ نغص اللّٰہُ علیہ العیش و نغص عیشتہ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی زندگی کو بدمزہ کر دینا۔ ـــ فلانًا: کی زندگی مکدر کر دینا۔ نغّص تنغیصًا: کو پوری خوشگواری نصیب نہ ہونا۔ انغص اللّٰہُ علیہ نعمتہ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی زندگی کو بدمزہ کر دینا۔ ـــ فلانًا إبلَہُ: کے اونٹوں کو چرنے نہ دینا۔ تنغّص العیشُ: زندگی کا مکدر اور بدمزہ ہونا۔ تناغص تِ الابلُ: اونٹوں کا بھیڑ کرنا۔ النغصۃ جمع نغص: وہ چیز جو مراد حاصل کرنے سے روک دے۔

○ نغّص و انغص علی ہ: کی خوشیوں یا زندگی وغیرہ کو درہم برہم کرنا، ابتر کرنا، خراب کرنا، پریشان کرنا، ناگوار بنانا۔ تنغّص: پریشان ہونا، ابتر ہونا، خراب ہونا، ناگوار ہونا۔ مُنغِّص: ہیجان پیدا کرنے والا، بھڑکانے والا۔ ابھارنے یا اکسانے والا۔

نغض: نغض ـِ نغضًا و نغوضًا و نغضانًا: ہلنا، بے قرار ہونا، کانپنا۔ ـــ القومُ إلی العدو: لوگوں کا دشمن کے مقابلہ کیلئے اٹھنا۔ ـــ الشئَ و بالشئِ: کو حرکت دینا۔ ـــ نغضا الشئُ: زیادہ ہونا، بکثرت ہونا۔ ـــ السحابُ: بادل کا گہرا چھا جانا۔ نغّض الشئَ: کو حرکت دینا، انغض الشئُ: ہلنا، بے قرار ہونا۔ ـــ رأسَہُ: کو تعجب یا مسخری سے ہلانا۔ تنغّض الشئُ: ہلنا، بے قرار ہونا۔ الناغِض (فا) جمع نغض من الانسان: گردن کی جڑ۔ ـــ من الکتِف: مونڈھے کے کنارے کی پتلی ہڈی۔ غیمٌ ناغِضٌ: ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والے بادل۔ النُغض (مص): چلنے میں سر ہلانے والا یا کانپنے والا۔ النُغض من الکتف: مونڈھے کے کنارے کی پتلی ہڈی۔ النغاض من السحاب: ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والے بادل۔ رجلٌ نغاضُ البطن: موٹے پیٹ والا کہ موٹاپے کی وجہ سے پیٹ پر شکن پڑی ہوں۔ النغوض: بڑھیے کوہان کی اونٹنی۔

نغف: نغِف ـَ نغفا البعیرُ: اونٹ کی ناک میں کیڑے ہونا۔ النغف (ح): اونٹوں اور بکریوں کی ناکوں میں پایا جانے والا کیڑا۔ (واحد نغفۃ) خشک رینٹ۔

نغق: نغق ـِ نغاقًا و نغیقًا الغرابُ: کوئے کا کائیں کائیں کرنا۔ النغّاق: بہت کائیں کائیں کرنے والا۔

نغل: نغِل ـَ نغلًا الجلدُ: کھال کا دباغت میں خراب ہوجانا۔ ـــ الجرحُ: زخم کا بگڑ جانا، زخم میں خرابی رہ جانا۔ ـــ نیتُہُ: نیت بگڑ جانا۔ ـــ قلبُہُ علَی: مجھ سے کینہ رکھنا۔ ـــ بینھم: کے درمیان فساد ڈالنا، چغلخوری کرنا۔ ـــ وجہُ الارض: خشک ہونے کی وجہ سے زمین کی سطح کا ٹکڑے ٹکڑے ہوجانا۔ نغَل ـُ نغولۃ المولودُ: بچہ کا نسب بگڑنا، اسم مصدر، النِغلۃ۔ انغَل الجلدَ: کھال کو رنگتے ہوئے خراب کر دینا، اسم النُغلۃ ہے۔ النغل (ح): خچر۔ ـــ م نغلۃ: خراب۔ حرامی بچہ۔ النغل (مص): لوگوں کے درمیان فساد انگیزی، چغل خوری۔ النغِل م نغلۃ والنغیل: خراب، حرامی بچہ۔ النغلۃ: چغلخوری۔ النغیلۃ (ح): چمڑے کو خراب کرنے والا کیڑا۔

○ نغِل قلبُہُ علی: کے خلاف آزردگی یا بغض و کینہ رکھنا۔ نغِل: ناجائز یا حرامی بچہ، حرامزادہ، ولد الزنا۔ نغیل: ناجائز بچہ، حرامزادہ، ولد الدنا۔ نغولۃ حرامی پن، خلاف قانون ہونا، غیر شرعی ہونا، کم اصل ہونا۔

نغم: ۱۔ نغم ـِ و نغِم ـَ نغمًا و نغمَ و تنغّم الرجلُ: گانے میں سر نکالنا، کہا جاتا ہے: سکتَ فما نغم بحرف: وہ خاموش رہا اور ایک حرف نہیں بولا۔ ناغم مُناغمۃً: سے بہت آہستہ گفتگو کرنا۔ النغم و النغَم: سرگوشی، کھسر پھسر، زیر لب بولنا، کان میں کہنا۔ ـــ جمع انغام و جمع اناغیم: ہیجان خیز گیت، سریلا گیت، نغمہ شریں، نغمہ، راگ، لے، آہنگ، اسی سے ہے موسیقی کے نغمے۔ النغمۃ و النغمَۃ جمع نغمات: النغم و النغَم کا واحد، سریلی آواز۔ النغام: بہت سر نکالنے والا۔ رجُل نغوم: سریلی آواز والا۔

۲۔ نغم ـِ و نغِم ـَ نغمًا فی الشراب: کو تھوڑا سا پینا۔

○ نغم ـُ و نغم ـَ نغمًا و نغمًا: نغمہ گنگنانا، گانا۔ نغّم و تنغّم: نغمہ گنگنانا، گانا۔ نغم و نغم جمع انغام: سر، لے، تان، نغمہ، ترانہ، سریلا گیت، نغمہ شیریں، راگ، آہنگ، آواز کی کیفیت، آواز، آواز کا اتار چڑھاؤ، سُر۔ نغمۃ و نغمہ جمع نغمات: سر، لے، تان، نغمہ، ترانہ، سریلا گیت، نغمہ شیریں، راگ، آہنگ، سرگم کا سر، آواز کا اتار چڑھاؤ، زیر و بم، لہجہ، دھن، گیت، مشہور گیت یا دھن۔ تناغم: ہم آہنگی، منغوم: سریلا، رسیلا، خوش آہنگ۔

نغو: نغا ـُ نغو نغوًا و نغی ـِ ینغی نغیًا و انغی الیہ: سے صاف صاف بات کرنا کہا جاتا ہے: سکت فلانٌ فما نغی بحرف: وہ خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ ناغی الصبیَّ: بچے کے ساتھ خوش کن باتیں کرنا۔ ـــ المرأۃَ: عورت سے عشق بازی کرنا۔ ـــ الرجُلَ: کا مقابلہ کرنا، پر غالب آنے کی کوشش کرنا، کے قریب ہونا۔ ـــ الموجُ السحابَ: موج کا بادل کی طرف اٹھنا، کہا جاتا ہے: ھذا الجبل یناغی السماء: یہ پہاڑ اونچا ہونے کی وجہ سے آسمان کے قریب پہنچا ہوا ہے، پہاڑ آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ تناغی القومُ: ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ الناغیۃ: کلمہ، لفظ۔ النغوۃ: اچھی نعمت، اچھا کلام۔ النغیۃ: عمدہ نعمت، عمدہ کلام، افواہ پہلی خبر کہا جاتا ہے: سمعتُ نغیۃً من کذا: میں نے ایسی ایسی خبر سنی ہے۔

○ نغا ـُ نغوًا و نغیَ ـِ نغیًا الی: سے بات کرنا۔ ناغی ہ: کے کان میں سرگوشی کرنا، آرام اور شفقت سے خصوصاً بچے کے ساتھ باتیں کرنا، کی چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا۔ ـــ بچہ کا غوں غاں کرنا، پرندہ کا چہچہانا، چیں چیں کرنا۔

نف: ۱۔ نفّ ـُ نفًّا الارضَ: زمین میں کوئی چیز بونا، بوائی کرنا۔ ـــ نفًّا السویقَ: ستو پھانکنا۔ النفۃ والنفی: کھجور کی پتیوں کا بنا ہوا گول دسترخوان۔ النفیف: زین کا تنگ۔ النفِی جمع نفافِی: ستو چھاننے کی میز وغیرہ۔ النفِیّۃ: کھجور کی پتیوں کا بنا ہوا گول دسترخوان۔

۲۔ النفنف جمع نفانیف: فضائے آسمانی، آسمان زمین کے درمیان کا خلا، دیوار کی چوٹی سے نیچے تک کا حصہ۔ کنواں (من سے تہہ تک) پہاڑ کا دیوار کے مانند گوشہ۔ بیابان، دو پہاڑوں کے درمیان گہری گھاٹی۔ دور۔ نفانِفُ الدار: گھر کے اطراف و نواحی۔ النفناف: دو پہاڑوں کے درمیان کا گہرا شگاف، دور۔ عند العامۃ: برف کے گالے۔

○ نفّ ـُ نفًّا: ناک سنکنا یا صاف کرنا، ناس لینا، نفّۃ: نسوار، ناس، ہلاس نسوار کی چٹکی۔ نفاف: ناس لینے والا۔

نفا: النُفا: واحد نفاۃ: نباتات کے متفرق قطعات، چھوٹے باغ، چراگاہ کے بڑے رقبہ پر درختوں کا جھنڈ۔

نفت: ۱۔ نفت ـِ نفتًا و نفتانًا و نفیتات القِدرُ: ہانڈی کا زور سے ابلنا صفت نفوت۔ ـــ الرجُلُ: غضبناک ہونا۔ غصہ میں بھر جانا۔ ـــ نفتًا الدقیقَ:

آٹے کا پانی ڈالنے پر پھول جانا۔
نافت القِدرُ: ہانڈی کا زور سے ابلنا۔ ــــ الرجُلُ: غضبناک ہونا یا غصہ میں بھر جانا۔ النَفِيئة: آٹا جس پر پانی یا دودھ ڈالا جائے تو وہ پھول جائے۔

۲۔ النَفثالِين (لـ): کاربن اور ہائیڈروجن کا مرکب جو رنگدار چیزیں بنانے کے کام آتا ہے۔

نفث: نَفَثَ ـُ نَفْثًا و نَفَثانًا البصاقَ من فيه: منہ سے تھوک پھینکنا۔ ــــ الجرحُ الدمَ: زخم کا خون نکالنا، ظاہر کرنا۔ ــــ الرجُلُ: تھوکنا۔ ــــ تِ الحيّةُ السمَّ: سانپ کا زہر نکالنا۔ ــــ المصدُورُ: سینہ کی بیماری والے کا تھوک پھینکنا۔ ــــ القلمُ: لکھنا۔ ــــ فلانًا: پر جادو کرنا کہا جاتا ہے نفث اللّٰهُ الشيئَ في قلبه: اللہ تعالیٰ نے کوئی بات اس کے دل میں ڈال دی۔ نُفِثَ في روعي او قلبي كذا: مجھے کا الہام ہوا۔ فلانٌ ينفث علىّ غضبًا: وہ مجھ پر غصہ کی شدت سے پھنکارتا ہے۔ نافَثَ مُنافَثَةً ہُ: سے پوشیدگی میں بات کرنا۔ النافِثُ و النَفّاثُ م نافِثة و نفّاثه: ساحر جادوگر۔ النَفْثُ (مص): بلغم۔ نفثُ الشيطان: غزلیہ اشعار۔ النَفْثة جمع نَفَثات: نفث کا اسم مرّہ، کہا جاتا ہے۔ ما اَحسَنَ نفثاتِ فلانٍ: اس کے شعر کتنے عمدہ ہیں۔ النُفاثة: تھوک۔ دمٌ نفيثٌ: زخم سے بہنے والا خون۔ المَنفُوثُ مفع۔ رجُلٌ مَنفُوث: مسحور، جادو کیا ہوا۔

○ نَفَثَ ـُ نَفْثًا ہ: کچھ تھوکنا، کھنکارنا، (بلغم) تھوکنا، خارج کرنا، کھانس کر نکالنا۔ ــــ ہ: سانپ کا زہر کی پھکار مارنا، ــــ ہ: (تمباکونوش کا) دھواں نکالنا، چھوڑنا (پائپ یا حقے کے) کش لینا ــــ ہ: کو زبان سے نکالنا، منہ سے کہنا، بیان کرنا۔ ــــ ہ في: کے دل میں کچھ ڈالنا، کو میں منتقل کرنا۔ نَفْث: کھنکارنا، بلغم نکالنا، بلغم تھوکنا، لعاب دہن، تھوک۔ نفث الشيطان: عاشقانہ یا شہوانی شاعری۔ نَفْثة جمع نَفَثات: کنکھارنا، بلغم تھوکنا، لعاب دہن، تھوک، جمع مادہ جو کھنکار کر نکالا گیا ہو یا خارج کیا گیا ہو، بلغم، اخراج، فراط، وفور، بھاؤ، گالی گلوج، سب وشتم، گالیوں کی بوچھاڑ، الزامات، الہامات۔ نفثاتُ الاقلام: ادبی تصنیفات، نُفاثة: لعاب دہن، تھوک۔ طائرة نَفّاثة: جٹ ہوائی جہاز، فوارے والا ہوائی جہاز، فواری طیارہ، نَفّاثي: جٹ، فوارے والا۔ تسيير نَفّاثي: جٹ والا، فواری۔ قوت سائقہ (Jet-propulsion)۔ نَفّاثة جمع نَفّاثات: گرہوں پر پھونکنے والی عورت، جادوگرنی، ساحرہ۔

نفج: ا۔ نَفَجَ ـُ نُفُجًا و نَفَجانًا و نُفُوجًا الارنبُ او اليربوعُ: خرگوش یا جنگلی چوہے کا دوڑ کر نکل جانا۔ ــــ ت الريحُ: ہوا کا تیزی سے چلنا۔ ــــ ت الطريقُ بالقوم: راستہ میں قوم کا اچانک نمودار ہونا۔ ــــ نَفَجًا الانسانُ: جھوٹا فخر کرنا۔ ــــ تِ الفرّوجةُ: مرغی کے بچے کا انڈے سے نکلنا۔ ــــ الأرنبَ وغيرها: خرگوش کو بھڑکا کر نکالنا۔ ــــ الشيئَ: کو اٹھانا، کی تعظیم کرنا۔ ــــ السقاءَ: مشک بھرنا۔ أنفجَ الحالبُ: دوہتے وقت برتن کو تھن سے علیحدہ کرنا۔ ــــ الارنبَ: خرگوش کو بھڑکا کر نکالنا۔ تنَفّجَ: بلند ہونا۔ ــــ الرجُلُ: جھوٹا فخر کرنا، غیر واقعی صفت پر فخر کرنا۔ ــــ ت الريحُ على القوم: لوگوں کی غفلت میں ہوا کا آندھی بن کر آنا۔ إنتفجَ: بلند ہونا، ــــ الرجُلُ: جھوٹا فخر کرنا، غیر واقعی صفات پر فخر کرنا، ــــ الارنبُ: خرگوش کا دوڑنا، کودنا، کہا جاتا ہے: انتفجت منه الارنبُ: خرگوش اس سے کود کر نکل گیا۔ ــــ الارنبَ وغيرها: خرگوش وغیرہ کو بھڑکا کر نکال دینا۔ إستنفَجَ الشيئَ: کو نکالنا، ظاہر کرنا، بھڑکانا، کہا جاتا ہے: ما الذي استَنفَجَ غضبك: تیرے غصہ کو کس چیز نے بھڑکایا۔ النافِج (فا) صوتٌ نافِجٌ: کرخت آواز، النافِجة جمع نَوافِج: نافج کا مونث۔ بہت بارش برسانے والا بادل، ہوا کا زور کا جھونکا، بیٹی، آخری پسلی کہا جاتا ہے: هو نُفُجُ الحقيبة: وہ موٹے سرین والا ہے۔ امرأة نُفُجُ الحقيبة: بڑے سرین والی عورت۔ النَفّاج: مغرور، متکبر۔ النفيجة جمع نَفائِج: کمان۔ الأنفجانيّ: کلام میں افراط کرنے والا۔ المَنافِج: بڑائیاں، بزرگیاں، عظمتیں، دبدبے۔ بعيرٌ مُنتفِج: اونٹ جس کے پہلو نکلے ہوئے ہوں۔ المَنفُوج: وسیع پہلوؤں والا اونٹ۔

۲۔ النافِجة جمع نَوافِج: مشک کا برتن، نافہ (فارسی لفظ) النِفاجة: آستین کے نیچے کا مربع پارچہ۔ ــــ النَفيج جمع نُفُج: قوم میں اجنبی شخص جو نہ تو صلح کرے نہ فساد۔ النُفَج: بوجھل اور سست لوگ۔

○ نَفَجَ ـُ نَفْجًا و نَفَجانًا و نُفُوجًا: یکا یک اٹھ بیٹھنا، بھاگ کھڑے ہونا، کودنا، پھلانگنا، پھاندنا، اچھلنا۔ چھلانگیں لگاتے ہوئے جانا، بڑ ہانکنا، شیخی بگھارنا، ڈینگ مارنا۔ تَنَفّجَ: بڑ ہانکنا، شیخی بگھارنا، ڈینگ مارنا۔ إنتفجَ: بمعنی (نَفَجَ ـُ نُفجًا و نُفَجانًا و نفوجًا) ــــ نَفْج: شیخ، بڑ، ڈینگ۔ نَفّاج: شیخی خورہ، آن دکھاتے پھرنے والا، ظاہرت پرست۔ نافجة جمع نَوافِج: مشک رکھنے والا تھیلا یا برتن۔

نفح: نَفَحَ ـَ نَفْحًا و نَفَحانًا و نُفُوحًا و نُفاحًا الطيبُ: خوشبو مہکنا۔ ــــ ت الريحُ: ہوا کا چلنا، پہلی بار چلنا۔ ــــ العِرقُ: رگ سے خون نکلنا۔ ــــ تِ الدابّةُ الرجُلَ: جانور کا آدمی کو کھر کے سرے سے مارنا۔ ــــ فلانًا بالسيف: کو تلوار کی ہلکی سی ضرب لگانا۔ ــــ ہُ بكذا: کو کچھ دینا۔ ــــ الشيئَ: کو سے ہٹانا۔ ــــ لِمّتَهُ: بالوں میں کنگھی کرنا۔ نافَحَ مُنافَحةً ہُ: سے جھگڑا کرنا۔ ــــ عن فلان: کا دفاع کرنا۔ إنتفَحَ بفلان: کا مقابلہ کرنا۔ ــــ إلى موضع كذا: کی طرف لوٹنا۔ النَفْح (مص) من الرياح: سردی میں ہوا کا چلنا۔ (گرمی میں ہوا کے چلنے کو لَفح کہتے ہیں) کہا جاتا ہے: نِيّةٌ نَفَحٌ: عرصہ سے منصوبے باندھا ہوا، ارادہ۔ النَفْحة جمع نَفَحات: نفح کا اسم مرّۃ۔ ہوا کا جھونکا، بخشش، عطیہ، کہا جاتا ہے: لا يزال لفلان نفحاتٌ من المعروف: فلاں شخص کے مہربانی کی بخششیں جاری ہیں۔ ــــ من الالبان: خالص دودھ۔ نَفْحةُ الطيب: خوشبو کی مہک۔ نفحةُ الريح: ہوا کا جھونکا۔ نفحةُ الدم: خون کا فوارہ۔ النَفّاح: فیاض۔ طعنةٌ نَفّاحةٌ: زور سے خون نکالنے والا نیزہ۔ النَفُوح من النوق: اونٹنی جس کا دودھ ٹپکتا رہے۔ ــــ من القسيّ: تیر دور پھینکنے والی کمان۔ ريحٌ نَفُوحٌ: تیز چلنے والی ہوا۔ النِفيح و المِنفَح: بے جا مداخلت کرنے والا۔ الإنفَحة و الإنفِحة و الإنفَحّة و المِنفَحة: بکری کے بچے کے معدہ کا پنیر۔

○ نَفَحَ ـَ نَفْحًا و نَفَحانًا و نفاحًا: (خوشبو کا) پھیلنا، بکھرنا، خوشگوار بو نکالنا، مہکیلا، معطر یا خوشبودار ہونا، (ہوا) کا چلنا۔ ــــ ہ ب: کو کا تحفہ بنانا، کو کچھ پیش کرنا۔ ــــ ہ ہ: کو کی دعوت دینا۔ نافَحَ عن: کی حفاظت کرنا، کا دفاع کرنا۔ نَفْحة جمع نَفَحات: ہوا کا جھونکا، جھکڑ، سانس، خوشبو پھیلانا، خوشبو، تحفہ۔ مِنفَحة: جما ہوا دودھ، پنیر مایہ۔

نفخ: نَفَخَ ـُ نَفْخًا بفمه: پھونک مارنا، کہا جاتا ہے: نفخ في النار و نفخ النار: اس نے آگ میں پھونک ماری یا آگ کو پھونک ماری۔ ــــ الضحى: دن چڑھنا۔ ــــ تِ الريحُ: ہوا کا اچانک چلنا۔ ــــ ہُ الطعامُ: کو کھانے کا سیر کرنا، کہا جاتا ہے: نفخ شدقيه: اس نے تکبر کیا۔ نفخ الشيطانُ في انفه: اس نے اپنے متعلق ایسی ڈینگ ماری جس کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ نَفَّخَ بفمه: پھونک مارنا۔ تَنفّخَ: پھولنا۔ إنتفخَ: پھولنا۔ الرجُلُ: بڑا بننا، تکبر کرنا

الشيُّ: بلند ہونا۔ النهارُ: دن چڑھنا۔ النافخ (فا): کہاجاتا ہے: مابالدار نافخ ضَرَمَةٍ: گھر میں کوئی نہیں۔ النفخ (مص): فخر، تکبر۔ کہاجاتا ہے: فلانٌ ذو نفخ: فلاں شخص متکبر ہے۔ النفخ: جانوروں کے ٹخنے کا ورم۔ النُفُخ: بھری جوانی والا۔ کہاجاتا ہے: شابٌ نُفُخٌ و جاريةٌ نُفُخٌ: بھرپور جوان، بھرپور جوانی والی لڑکی۔ النَّفْخَة: نفخ کا اسم مرّة، کھانے وغیرہ سے پیٹ کا پھلاؤ۔ نفخةُ الشباب: بھری جوانی۔ نفخةُ الربيع: موسم بہار کی تروتازگی۔ النُفّاخ: ورم کا پھلاؤ۔ النُفّاخة ج نُفّاخات: پانی کا بلبلہ، مچھلی کے پیٹ میں ایک پھولی ہوئی چیز۔ النافوخ: بجائے یافوخ: چندیا۔ النفيخ (مص): آگ میں پھونکنے پر مقرر کیا ہوا۔ کہاجاتا ہے: رجلٌ انُفُخانٌ و انِفِخانٌ و انُفُخانيٌ و انِفِخانيٌ: پُرگوشت موٹا۔ مؤنث میں ان سب کے ساتھ (ۃ) آجاتی ہے۔ المِنفاخ و المِنفخ ج منافيخ و منافخ: لوہار کی دھونکنی، دھونکنی، پھونکنی، ہواکش، ہوا بھرنے والا پمپ۔ منافخُ الشيطان: شیطانی وسوسے۔ المنفوخ (مفع): بڑے پیٹ والا، موٹا، بزدل۔ النفخ: فخر، تکبر، کہاجاتا ہے: فلانٌ ذو نفخ: فلاں شخص متکبر ہے۔ النفخ: جانوروں کے ٹخنے کا ورم۔ النُفُخ: بھری جوانی والا ہونا، کہاجاتا ہے: شابٌ نُفُخٌ وجاريةٌ نُفُخٌ: بھرپور جوان، بھرپور جوانی والی لڑکی۔ النَّفخة: نفخ کا اسم مرة، سانس، ریح۔ نفخةُ الشباب: بھری جوانی۔ نفخةُ الربيع: موسم بہار کی تروتازگی۔ النُفّاخ: ورم کا پھیلاؤ۔ النُفّاخة جمع نُفّاخات: پانی کا بلبلہ، مچھلی کے پیٹ کے اندر کا پھکنا۔ النافوخ: (بجائے یافوخ) چندیا۔ النفيخ (مص): آگ پھونکنے پر مقرر کیا ہوا، کہاجاتا ہے: رجلٌ انُفُخانٌ وانِفَخانٌ و انُفُخانيٌ و انِفَخانيٌ: پرگوشت موٹا، مؤنث میں ان سب کے ساتھ ۃ آتی ہے۔ المِنفاخ والمِنفخ جمع منافيخ ومنافخ: لوہار کی دھونکنی، دھونکنی، پھونکنی، ہواکش، ہوا بھرنے والا پمپ۔ منافخُ الشيطان: شیطانی وسوسے۔ المنفوخ (مفع): بڑے پیٹ والا، موٹا، بزدل۔

○ نَفَخَ ـُ نَفْخًا: ہوا کا چلنا، ہانپنا، سانس پھولنا، سانس لینا۔ ــــ ہ / في: میں ہوا بھرنا، (ٹائر میں) ہوا بھرنا، غبارہ میں گیس بھرنا۔ ــــ ہ في: کسی آلہ موسیقی پر دھن بجانا۔ ــــ ہ في: میں کی سرگوشی کرنا کے دل میں کچھ ڈالنا۔ ــــ ہ: کو فخر سے بھر دینا، کو بہت مغرور کر دینا، کو پھلانا، مغرور کرنا، کو نازاں کرنا، کے لئے موجب فخر ہونا، کو (کامیابی کا) بہت خوش کرنا۔ نفخ في البوق: بگل بجانا۔ نفخ في روحه: میں روح پھونکنا، جان ڈالنا۔ نفخ في صورته: کو پیدا کرنا۔ نفخ في زمّارة روحه: کے مزاج کو برانگیختہ کرنا۔ نفخ الشمعة: موم بتی، قندیل، یا شمع پھونکوں سے بجھانا۔ نفخ شِدْقَيه: مغرور ہونا، متکبر ہونا۔ اِنتفخ: ہوا کا بھرنا، ہوا سے بھر جانا، سوجنا، بلند ہونا، پھیلنا۔ انتفخ سَحْرُهُ اور انتفخت مساحِرُهُ: (خوف یا تکبر سے) پھیپھڑوں کا ہوا سے بھر جانا۔ نَفْخَة: ہوا کا جھونکا، سانس، جھکڑ، ریح، ابھار، سوجن، ورم، خود فریبی، خود پسندی، تکبر، نخوت، کبر، نفخة كذابه (كاذبة): خود بینی، شیخی، لاف زنی، خود پسندی، عجب۔ نفّاخ: ابھارا کرنے والا، جسے ابھارا ہو۔ نُفّاخ: سوجن، ورم۔ نُفّاخة: مثانہ، پھکنا، بلیڈر، بلبلہ، حباب۔ مِنفخ جمع منافخ: دھونکنی۔ نافخ: پھونکیں مارنے والا۔ مُنتفِخ: پھولا ہوا، سوجا ہوا، ہوا بھرا ہوا، مغرور، ہوا یا گیس بھرا ہوا۔

نفد: ا۔ نَفَدَ ـُ نَفْدًا القومَ: لوگوں سے آگے بڑھ جانا۔ نَفَّدَ الحسابَ (ت): حساب کا تفصیل سے ذکر کرنا۔ اَنْفَدَ القومَ: لوگوں کو چیر کر ان میں گھسنا اور بیچ میں چلنا۔

۲۔ نَفِدَ ـَ نَفَدًا ونَفادًا الشيُّ: ختم ہونا، فنا ہونا، کہاجاتا ہے: نَفِدَ زادُ القومِ: لوگوں کا زادراہ ختم ہو گیا۔ اَنْفَدَ القومُ: قوم کا مال اور توشہ ختم ہوجانا۔ ــــ البئرُ: کنویں کے پانی کا سوکھ جانا۔ ــــ الشيَّ: کو خرچ کر دینا۔ نافَدَ مُنافَدَةً ہ: باہم حاکم کے پاس جانا، جھگڑا کرنا ایک دوسرے کی حجت کو باطل کرنا۔ تنافَدَ الخصمان إلى القاضي: دو مخالفوں کا اپنا معاملہ قاضی (جج) کے پاس لیجانا اور ہر ایک کا اپنے دلائل پیش کرنا۔ ــــ القومُ: لوگوں کا آپس میں جھگڑنا۔ اِنتفَدَ الشيَّ: کو خرچ کر دینا، ختم کر دینا۔ ــــ الحقَّ: پورا حق لینا، کہاجاتا ہے: انتفد من عدوِّه: اس نے دوش میں اپنا پورا حصہ لیا۔ ــــ اللبنَ: دودھ دوہنا۔ اِستنفَدَ الشيَّ: کو فنا کرنا، خرچ کرنا۔ ــــ وُسْعَهُ: اپنی پوری طاقت لگا دینا۔ المُنافِد (فا)، خصمٌ مُنافِدٌ: مخالفت میں پورا زور لگانے والا مد مقابل۔ المُنتفِد فا: کہاجاتا ہے: قعد منتفِدًا: وہ ایک طرف ہو کر بیٹھا۔ المُنتفَد (مفع): کہاجاتا ہے: في هذا الشيء منتفَدٌ عن غيره: اس چیز میں بہ نسبت غیر کے وسعت ہے۔ فلانٌ مُنتفِدُ فلانٍ: جب اس کے پاس کچھ نہ رہے تو وہ اس کو خرچہ دے کر اس کی مدد کرتا ہے۔

○ نَفِدَ ـَ نَفَدًا و نَفادًا: خالی ہو جانا، ختم ہو جانا، خرچ ہو جانا، ختم ہو جانا، کم رہ جانا، کتاب وغیرہ کا کوئی نسخہ نہ رہنا۔ نفد لديه معين الصبر: کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانا۔ اَنْفَدَ و استنفَدَ ہ: کو خرچ کر ڈالنا، خالی کر دینا، ختم کر دینا، کو پورا پورا چکھنا، سے پورا پورا لطف اندوز ہونا۔ استنفد كلَّ وُسْع: ہر امکان سے فائدہ اٹھانا، سب کچھ کر ڈالنا۔ نَفْدَة جمع نَفَدات: (حساب کی کتاب میں) اندراج لکھی ہوئی مد۔ النفود: شمالی نجد کے ایک ریگستان کا نام۔ نافد الصبر: بے صبر۔ نافِدَة: خلا۔

نفذ: نَفَذَ ـُ نَفْذًا ونُفوذًا ونَفاذًا الشيُّ الشيَّ: چیز کا چیز کو چھید کر پار ہو جانا۔ کہاجاتا ہے نفذ السهمُ الرميّةَ وفيها ومنها: تیر کا شکار کے پیٹ میں گھس کر پار ہو جانا۔ ــــ فلانٌ القومَ: لوگوں سے آگے نکل جانا اور انہیں پیچھے چھوڑ جانا۔ ــــ نُفوذًا ونَفاذًا الامرُ او القولُ: حکم یا قول پورا ہونا۔ ــــ المنزلُ إلى الطريق: منزل کا راستہ سے متصل ہونا۔ ــــ الطريقُ: راستہ کا عام گزرگاہ ہونا۔ صفت نافِذٌ یعنی عام۔ ــــ الكتابُ إلى فلان (خط کتاب تحریر) کا کسی تک پہنچنا۔ ــــ الرجلُ في الامر: کام کامیابی سے چلانا، کام میں ماہر ہونا۔ ــــ لوجهه: اپنی حالت پر گزر جانا۔ نَفَّذَ السهمَ الرميّةَ: تیر کو شکار کے پار کر دینا۔ ــــ الكتابَ إلى فلان: (کتاب، خط، تحریر) کسی کو بھیجنا۔ ــــ الرجلُ القومَ: لوگوں کے آگے گزر جانا، لوگوں کے بیچ میں چلنا۔ ــــ الحاكمُ الامرَ: حاکم کا حکم جاری و نافذ کرنا۔ نافَذَہ: پر مقدمہ کرنا۔ اَنْفَذَ السهمَ الرميّةَ: تیر کو شکار کے پار کر دینا۔ ــــ الكتابَ إلى فلان: کو کے پاس بھیجنا۔ ــــ الرجلُ القومَ: کے آگے چلا جانا، کے درمیان چلنا۔ ــــ الحاكمُ الامرَ: حکم جاری و نافذ کرنا۔ ــــ عهدَہ: عہد عمل میں لانا۔ تنافَذَ القومُ إلى الحاكم: قوم کا حاکم کے پاس جانا، اپنا مقدمہ حاکم کے پیش کرنا، عدالت میں وکالت کرنا۔ النافِذ (فا): ہر کام کو کر گزرنے والا، انسان کے جسم کے سوراخوں میں سے ایک جیسے منہ ناک وغیرہ (نوافذ کا واحد) طریقٌ نافِذ: عام گزرگاہ، شاہراہ۔ امرٌ نافِذ: سخت حکم جس کی فرمانبرداری کی جائے۔ النافِذة جمع نَوافِذ: نافذ کا مونث، کھڑکی، روشن دان، کہاجاتا ہے: هذه طعنة نافِذة: گھسنے یا چھپنے والا گھاؤ۔ النَفَذ جمع اَنْفاذ: جاری

کرنا۔ (کہاجاتا ہے: أَمَرَ بِنفذِ الكتاب: اس نے خط کا متن بھیجنے کا حکم دیا۔) پھٹن، شگاف (کہا جاتا ہے: هذا طعنة لها نفذٌ: یہ گھاؤ سوراخ دار ہے) نکلنے کی جگہ۔ النُّفْذه جمع نُفَذ: مہرہ۔ النَّفَاذ والنُّفُوذ: ہر کام کو کرگزرنے والا۔ النَّفِيذ: بمعنی نافذ امرٌ نَفِيذٌ حکم جس کی فرمانبرداری کی جائے۔ التَّنفِيذ (مص): السُّلطةُ التنفيذية: حکومت۔ المَنفَذ جمع مَنَافِذ: گزرگاہ۔ المَنفِذ جمع مَنَافِذ: کسی چیز کےنفوذ کرنے کی جگہ۔ مَنَافِذُ الانسان: انسان کے جسم کے سوراخ، جیسے منہ ناک وغیرہ۔ المُنْتَفَذ: کشادگی، گنجائش۔

○ نَفَذَ ـُ نَفَاذًا ونُفُوذًا ہ / من: کو چھیدنا، سے گھسنا، کو بیدھنا، سے رستہ نکالنا، سے گزرنا، کے آرپار ہونا۔ — ہ ب: سے گزر جانا۔ — إلى: میں گھس جانا، داخل ہونا، سے گزرنا۔ — في / من: دشمن کی رکاوٹ توڑ کر نکل جانا۔ — الى: کسی تک پہنچنا، کسی جگہ پہنچنا، کے پاس جانا، پر منتج ہونا۔ (دروازہ یا کھڑکی کا) کی طرف کھلنا، (عمارت وغیرہ کا) سے متصل ہونا، سے ملا ہوا ہونا، سے پیوستہ ہونا۔ — في: کو اچھی طرح یا مہارت سے کرنا۔ —: پر عمل ہونا، کی تعمیل ہونا، عمل میں لایا جانا، قانونی طور پر درست ہونا، موثر ہونا، کارگر ہونا، عمل درآمد [illegible] قابل ہونا، نافذ العمل ہونا۔ نَفَّذَ و أَنْفَذَ ہ: کو بجالانا، کی تعمیل کرنا، کو عمل میں لانا، کی تکمیل کرنا، کو انجام دینا، کو پورا کرنا، کو کرنا، وجود میں لانا، (فرض) پورا کرنا، کو جامہ عمل پہنانا، (قرارداد وغیرہ) کو نافذ کرنا، پر عمل درآمد کرنا۔ (پروگرام کی) تکمیل کرنا۔ — ہ في: کے خلاف (سزا، حکم سزا) بجالانا، کی تعمیل کرنا۔ — ہ الى: کو کے پاس بھیجنا۔ تَنَفَّذَ: کی تعمیل ہونا، عمل میں آنا، بجالایا جانا۔ نَفَذ جمع انفاذ: سوراخ، باہر نکلنے کا راستہ، شگاف، درز، موکھا، روشن دان، روزن، دہانہ، نکاس، خلاصی، بچاؤ، فرار۔ نَفَاذُ البصيرة: ژرف نگاہی، تیز نگاہی، بصیرت، ذکاوت نکتہ رسی، فہم فراست۔ نُفُوذ: رسائی، نفوذ، داخل ہونا، گھسنا، سرایت، تاثیر، اثر، قوت اثر، زور کمال، کاری و موثر ہونا، تیر بہدف ہونا، اثر نفوذ، سطوت، بزرگی، آبرو، عزت وشہرت، نیک نامی، عمل، اختیار۔ نفوذ مطلق: مکمل اختیارات، غیر محدود اختیار۔ ذو نفوذ: ذی اثر، صاحب اختیار، بارسوخ۔ منفذ المياه: بند کا دروازہ، پانی کے بہاؤ پر کنٹرول کیلئے)۔ المنفذ البحري: سمندر تک رسائی، دخل في طور (دور) التنفيذ: موثر ہونا۔ نافذ ہونا۔ عونُ التنفيذ: سرکاری افسر، قرقی والا، بیلف۔ قسم التنفيذ: (عدالت) کا شعبہ عاملہ۔ لَجنةٌ تنفيذيةٌ: مجلس عاملہ۔ أَصْبَحَ نافِذًا: موثر ہونا، نافذ ہونا۔ الحكم نافذٌ فيه: کی سزا کے حکم پر عمل ہوگا، اس حکم کو قانونی طاقت حاصل ہے۔ نافِذ الكلمة: بارسوخ، صاحب اختیار، ذی اثر، طاقت ور۔ نافِذُ المفعول: قانونی، موثر، نافذ العمل، امرٌ نافذ: سخت حکم۔ نافِذَة: روکٹ (Wicket) نافِذَةُ الاطلاق: بھاگنے کی راہ، بچنے کی صورت، مفر، خامی، سقم، توپ یا بندوق چلانے کے سوراخ، موکھا، جھروکہ، روشندان۔ مُنَفِّذُ الوصية: وصیت کی تکمیل کرنے والا۔ عونٌ مُنَفِّذ: بیلف، قرقی والا، سرکاری افسر مُتَنَفِّذ: ذی اثر، بااثر۔

نفر ۱۔ نَفَرَ ـِ ـُ نُفُورًا و نِفَارًا و نَفِيرًا، الدابةُ من كذا: سے جانور کا بدکنا، صفت نَافِر و نَفُور — ـُ نُفُورًا و نِفَارًا و نَفِيرًا القومُ للقتال او الامر: لڑائی یا کام کیلئے لوگوں کا چل دینا۔ — نَفْرًا و نُفُورًا و نِفَارًا و نَفَرَانًا الظبيُ و غيرُهُ: ہرن وغیرہ کا بھاگنا، دور ہونا۔ — نَفْرًا من كذا: سے نفرت کرنا، کو ناپسند کرنا، کہاجاتا ہے: نَفَرتُ من صحبة فلان: میں نے فلاں شخص کی صحبت کو ناپسند کیا۔ — عن كذا: سے اعراض کرنا، سے دور رہنا۔ القومُ: لوگوں کا متفرق ہونا، منتشر ہونا۔ — فلانًا: پر غالب آنا۔ — الى الشي: کی طرف جلدی جانا۔ نَفْرًا و نُفُورًا الحاجُّ مِنَى: حاجیوں کا منی سے واپس ہونا اور مکہ جانا۔ — نُفُوراتِ العينُ و غيرها: آنکھ کا سوجنا۔

نَفَّرَہُ: کو بھگانا۔ — ہُ علی فلانٍ: کے پر غالب ہونے کا فیصلہ دینا۔ — ہُ الشيَّ و علی الشي و بالشي: کو پر غالب کرنا۔ — عن فلان: کو برا لقب دینا۔ نَافَرَ نِفَارًا و مُنَافَرَةً ہُ: کے پاس فیصلہ کیلئے جانا، پر حسب و نسب میں فخر کرنا، کہا جاتا ہے: نافرتُهُ الى القاضي فَنَفَّرَنِي عليه: میں اسے قاضی کے پاس لے گیا تو قاضی نے میرے حق میں اس پر غالب ہونے کا فیصلہ دیدیا۔ أَنْفَرَہُ: کو بھگانا۔ — القومُ: قوم کے اونٹوں کا بھاگ جانا۔ — القوم فلانًا: لوگوں کا کسی کی مدد کرنا۔ — الحاكمُ فلانا علی فلان: حاکم کا فلاں کے فلاں پر غلبہ کا حکم دینا۔ تَنَفَّرَ: بمعنی نَفَرَ — تَنَافَرَ القومُ للامر: کام کے لئے چل دینا۔ — الرجلان: آپس میں فیصلہ کیلئے جانا، باہم فخر کرنا۔ اِسْتَنْفَرَ الظبيُ: ہرن کا بھاگ جانا۔ — ہُ: کو بھگانا۔ — القومَ: قوم سے مدد چاہنا، قوم کو جنگ کیلئے جمع کرنا۔ — فلانٌ بنوبي: فلاں نے میرے لیے [illegible]

النَّافِر (فا) جمع نُفَّر ونُفَّار: غالب، النَّافِرَة: نافر کا مونث۔ نَافِرَةُ الرجل: رشتہ دار، واقف لوگ، طرفدار۔ الطائرة النافوريّة: تیز رفتار طیارہ۔ النَّفْر (مص): النافر کی جمع: تین سے دس تک کی جماعت۔ جنگ جوؤں کا گروہ، بھگوڑوں کا گروہ، کام میں آگے رہنے والوں کا گروہ۔ يومُ النَّفْر: ذی الحجہ کی تیرھویں تاریخ جبکہ حاجی منی سے واپس ہوکر مکہ معظمہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کہاجاتا ہے: عِفْرٌ نِفْرٌ وعِفْرٌ نِفْرٌ علی الإتباع: خبیث، سرکش، اسی طرح عفريةٌ نِفْريةٌ وعِفْريتٌ نِفْريتٌ وعِفْرِيَة نِفْرِيَة، النفر جمع أَنْفار: سارے لوگ، تین سے لے کر دس تک کی جماعت، کہا جاتا ہے: ثلاثة نفرٍ یا ثلاثة أنفار: تین شخص، نَفَرُ الرجل: آدمی کا خاندان۔ يومُ النَّفَر: بمعنی يوم النَّفْر النَّفْرة: نفر کا اسم مرۃ۔ تین سے دس تک کی مردوں کی جماعت۔ بھگوڑوں کا گروہ، جنگجوؤں کا گروہ، کام میں آگے رہنے والوں کا گروہ۔ نَفْرَةُ الرجل: مرد کا خاندان، طرفدار۔ النُّفْرَة: حکم۔ — والنُّفَرَة: نظربد سے بچاؤ کے لئے بچوں کا تعویذ۔ النِّفَار (مص): اڑیل ہونا، کہا جاتا ہے: في الدابة نفارٌ: جانور میں اڑیل پن ہے۔ النُّفَارَة: حکم، جو کچھ غالب مغلوب سے لے۔ النُّفَارِير: نُفْرور کا واحد، چڑیاں۔ النَّفُور: بھاگنے والا، بہت تیز بھاگنے والا۔ يومُ النُّفُور: عید قربان کا تیسرا دن جب لوگ منی سے مکہ معظمہ کا رخ کرتے ہیں۔ نُفُورَةُ الرجل: مرد کا خاندان، طرفدار، النَّفِير (مص) جمع أَنْفَار: دس سے کم لوگوں کا گروہ، لڑائی کی طرف کوچ کرنے والے لوگ۔ بگل۔ —— العام: عوام کا دشمن سے مقابلہ کیلئے اٹھ کھڑا ہونا، کہا جاتا ہے: ماهو بنفير فلان: وہ حسب ونسب میں اس کا ہمسر نہیں۔ يومُ النَّفِير: عید قربان کا تیسرا دن جب لوگ منی سے معظمہ کا رخ کرتے ہیں۔ المُسْتَنْفِر: بھاگنے والا۔ [illegible] تیز بھاگنے والا۔ المُسْتَنْفَر (مفع): [illegible] المَنْفُور (مفع): مغلوب۔ اليَنْفُور: بھاگنے والا۔ بہت تیز بھاگنے والا۔

۲۔ النَّافُور عن النصارى: (عیسائیوں کی) دعاؤں کی کتاب، ساغر پوش، نیاز چڑھی روٹی، عشائے ربانی۔

○ نَفَرَ ـُ نُفُورًا و نِفَارًا: (جانور کا) بھڑکنا، بدکنا، بھاگ نکلنا، فرار ہوجانا، (جانور میں) بھاگ پڑنا؛ ہر بڑی مچنا، — نَفْرًا: بھاگنا، فرار ہونا، — من: سے نفرت کرنا، بیزار ہونا، سے ناپسندیدگی یا کراہت

رکھنا۔۔۔ من /عن : سے پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، کنی کترانا، احتراز یا گریز کرنا، الگ رہنا، پرہیز کرنا، باز رہنا، سے کترانا، بھاگنا۔۔ ل / إلى : کو بھاگ دوڑ کر کر کے کرنا، کو جلدی کرنا، کو کرنے کے لئے دوڑ پڑنا۔ ۔۔۔ نُفُورا : پھولنا، سوجنا، پھیلنا، ابھرنا، باہر کو نکلنا، پھوٹ نکلنا، نکل آنا، ابھرا ہوا ہونا، نکلا ہوا ہونا، باہر ہونا۔ نَفَّرَ ہ : کو چونکا دینا، ڈرا دینا، گھبرا دینا، بوکھلا دینا، خوف زدہ کرنا، وحشت زدہ کرنا، ڈرا کر بھگا دینا، کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا، کو چلانا، ہانکنا، دھکا دینا۔۔۔ ہ من : کو سے نفرت سے بھر دینا، میں کیلئے ناپسندیدگی، نفرت، کراہت یا بدمزگی ابھارنا، کو کیلئے ناگوار یا گھناؤنا بنا دینا، کو سے بیگانہ کرنا، منحرف کرنا، برگشتہ کرنا، کو سے پھیر دینا، موڑ دینا، روگرداں کر دینا، کو سے پرایا کرنا، دور کرنا، پھیر لینا، کا سے دل توڑ دینا، کو سے ڈرا کر روکنا، باز رکھنا، کے سد راہ ہو جانا، کی میں خوشی، سرور، لذت خراب کرنا، کو سے غیر مطمئن کر دینا۔ نَافَرَ ہ / ہ : سے پرہیز کرنا، بچنا، باز رہنا، الگ رہنا، اجتناب کرنا۔ ۔۔۔ ہ : سے دور رہنا، سے نفرت کرنا، کو ناپسند کرنا۔۔۔ ہ : کی تغلیط کرنا، تردید کرنا، کو رد کرنا، سے متضاد، خلاف، بے جوڑ یا کے ناموافق ہونا۔ تَنَافَرَ : ایک دوسرے سے پرہیز کرنا، بچنا، باز رہنا، الگ رہنا، اجتناب کرنا، باہم ٹکرانا، متصادم ہونا، الگ ہو جانا، ناموافق ہونا، ناسازگار ہونا، مضر ہونا، بے موقع، بے محل، غیر مطابق یا ناموافق ہونا، بے جوڑ، خلاف یا متضاد ہونا، باہم کراہت پیدا کرنے والا ہونا، دور کرنے والا ہونا، ناگوار ہونا۔ اِسْتَنْفَرَ : ڈر کر بھاگنا۔ ۔ہ علی : سے لڑنے کا تقاضا کرنا۔۔۔ ہ : کو پکارنا۔۔۔ علی : کے خلاف لڑائی چھڑنا۔ نَفَر جمع اَنْفَار : جماعت گروہ، رسالہ (فوجی)، فوجی لوگ، شخص، فرد، فوجی سپاہی، سپاہی کے درجے کا فوجی، فوج کا سپاہی، جوان، مرد۔ نَفْرَة : نفرت، کراہت، ناپسندیدگی، گریز، بدمزگی۔ نُفُور : بدکنا، فرار (جانور کا) بھاگ جانا، رفوچکر ہو جانا، چھلانگ مارنا، بھاگڑ، بھڑک کر دوڑنا بھاگنا، نفرت، ناپسندیدگی، کراہت، بدمزگی، گریز، خفگی، ناراضمندی، ناخوشی، آزردگی، اجنبیت، بیگانگی، بے مہری، دل برداشتگی، کشیدگی۔ نَفُور : بھڑکنے والا، آسانی سے خوف زدہ ہو جانے والا، ڈر کر بھاگنے والا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، بزدل، ڈرپوک، بودا، کم گو، بے حوصلہ یا خود اعتمادی سے محروم، جھجکنے والا، شرمیلا، کم آمیز، پیچھے پیچھے رہنے والا۔ نَفِير جمع۔ نِفَار و اَنْفِرَة : جتھا، پارٹی، جماعت، گروہ، رسالہ (فوجی)، جنگ کیلئے روانگی، بگل، ترم۔ نَفِيرٌ عامٌ : ہتھیار اٹھانے کا عام پیغام، فوج میں جبری بھرتی، خطرے کی اطلاع عام۔ نَافُورَة جمع نَوَافِير : فوارہ، چشمہ، نَوْفَرَة جمع نَوَافِر : فوارہ، چشمہ، مُنَفِّر و مُنْفِر : کریہ، گھناؤنا، نفرت انگیز، ناپسندیدہ۔

نفز: نَفَزَ۔ نَفْزًا و نُفُوزًا و نَفَزَانًا الظبيُ : ہرن کا زقند بھرنا۔۔۔ الرجلُ : مرنا۔ نَفَّزَہُ : کو کودانا۔۔۔ ت المرأةُ ولدَها : عورت کا اپنے بچے کو اچھالنا۔۔۔ و اَنْفَزَ السهمَ : تیر کی سیدھ دیکھنے کے لئے اس کو ناخن پر گھمانا۔ تَنَافَزُوا : باہم ایک دوسرے پر اچھلنا، کودنا۔ النفيز و النفيزة : کھمن جو منگی میں اکٹھا نہ ہو سکے۔ النيفُوز من الظباء : بہت چھلانگیں مارنے والا ہرن۔

نفس: نَفَسَ۔ نَفْسًا بنفس (اي بعين) کو نظر بد لگانا۔ نَفِسَ۔ نَفَسًا و نَفَاسِيَةً بالشي : میں بخل کرنا۔۔۔ علي فلان بخير : پر سے حسد کرنا۔۔۔ نَفَاسَةً الشيَّ علي فلان : کو کا نااہل سمجھنا۔ نَفُسَ و نَفَاسَةً و نِفَاسًا المرأةُ غلاما : عورت کا بچہ جننا۔ نَفُسَ۔ نَفَاسَةً ونِفاسًا ونُفُوسًا و نَفَسًا : نفیس اور پسندیدہ ہونا۔ نُفِسَ نَفَسًا و نَفَاسَةً ونفاساتِ المرأةُ غلاما : عورت کا بچہ جننا۔۔۔ فلانٌ : پیدا ہونا صفت۔ مَنْفُوس : کہا جاتا ہے : ورث فلانٌ هذا قبل ان يُنفَس : فلاں شخص پیدا ہونے سے پہلے اس کا وارث ہوا۔ نَفَّسَ تَنْفِيسًا في الأمرِ : کو کی ترغیب دینا۔۔۔ عنه الكربةَ : کو غم سے دور کرنا، بر تسلی دینا، کہا جاتا ہے : نَفَّسَ فلانًا : اس نے فلاں شخص کو مہلت دی یا اس کے کرب اور غم کو دور کیا۔ نافَسَ نِفاسًا و مُنَافَسَةً فلانًا في الأمر : میں / پر باہم فخر کرنا، مقابلہ کرنا۔۔۔ في الشي : میں مبالغہ کرنا، کو بیش قیمت کرنا، کرم میں مقابلہ کے طور پر رغبت کرنا، اَنْفَسَ الشيُّ : نفیس ہونا۔۔۔ الشيُّ فلانًا : کو چیز پسند آنا۔۔۔ فلانًا في الشي : کو میں رغبت دلانا۔ تَنَفَّسَ : سانس لینا۔۔۔ الصبحُ : صبح کا روشن ہونا۔۔۔ ت القوسُ : کمان کا چٹخنا۔۔۔ النهرُ : نہر کا پانی زیادہ ہونا۔۔۔ النهارُ : دوپہر ہونا۔۔۔ الرجلُ : بات لمبی کرنا۔۔۔ الرجلُ في الأناء : برتن کو منہ سے دور کئے بغیر ایک ہی سانس میں پینا، کہا جاتا ہے : تَنَفَّسَ الصُّعَداءَ : تھکن یا غم سے لمبے لمبے سانس لینا۔ تنافَسَ القومُ في الامر : لوگوں کا کسی معاملہ میں مبالغہ کرنا، کرم، میں بطور مقابلہ رغبت کرنا، المُنَافِس (فا) : حاسد نظر بد والا، اونچی پسندیدہ شئی، جوئے کا پانچواں یا چوتھا تیر۔ النَّفْس (مص) جمع اَنْفُس و نُفُوس : روح، نظر بد، (کہا جاتا ہے اصابته نَفْسٌ : اسے نظر بد لگی) خون، (کہا جاتا ہے : دفق نَفْسَهُ : اس نے اپنا بہت خون نکالا۔) جسم، بدن، (کہا جاتا ہے هو عظيم النفس : وہ بڑے بدن والا ہے) شخص، عظمت، ہمت، عزت، غرور، تکبر، ارادہ، رائے، عیب، ہزا، پانی۔ نفسُ الامر : حقیقت امر۔ نفسُ الشي : وہی چیز، تاکید کیلئے بھی آتا ہے تو کہا جاتا ہے جاء نی هو نفسُه وبنفسه : وہ خود میرے پاس آیا۔ نفس مونث ہے اگر مراد روح ہو جیسے خرجت نفسُهُ : اس کی روح (جان) نکل گئی۔ اگر مراد شخص ہو تو مذکر ہے۔ جیسے عندي خمسة عشر نَفْسًا : میرے پاس پندرہ شخص ہیں، کہا جاتا ہے في نفسي ان اَفعَلَ كذا : میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، یا میرا ارادہ ہے کہ ایسا کروں۔ فلانٌ يُؤَامِرُ نفسيه و يشاور هما : وہ معاملہ میں متردد ہے۔ اس کی دو رائیں ہیں وہ نہیں جانتا کہ کس رائے پر ثابت قدم ہو، کہا جاتا ہے خرجت نفسُهُ وجاد بنفسه : وہ مر گیا، النَّفَس (مص) جمع اَنْفَاس : جھونکا، سانس، وسعت، مہلت، (کہا جاتا ہے : اعملوا الخير وانتم في نَفَسَ البقاء : تم کو زندگی میں مہلت نصیب ہو تو اچھے کام کرو)۔ لمبی گفتگو (کہا جاتا ہے : كتب كتاباً نَفَسًا : اس نے طویل (گفتگو والا) خط لکھا) گھونٹ : جیسے : اكرع ما في الاناء نَفَسًا واحدًا : برتن میں جو کچھ ہے اس کی ایک گھونٹ میں چسکی لگاؤ)۔۔۔ من التبك : تمباکو کا ایک کش، (کہا جاتا ہے : هذا شراب ذو نَفَس : یہ میٹھی پسندیدہ شراب ہے)۔ نَفَسُ الساعة : زمانہ، نَفَسُ الشاعر او المؤلف : شاعر یا مصنف کا اسلوب تحریر۔ النِّفَاس (مص) : زچگی، ولادت کے بعد کا خون۔ النُّفْسَة : مہلت (کہا جاتا ہے : لك في الامر نُفْسَةٌ : تمہیں اس معاملہ میں مہلت حاصل ہے) النُّفَسَاء و النُّفَسَاء و النَّفْسَاء جمع نِفاس و نُفُس و نُفَس و نُفَّس و نُفَّاس و نَوَافِس و نُفَسَاوات : زچہ، تثنیہ نُفَسَاوان۔ النفُوس : حاسد نگاہیں۔ النفيس : بہت مال۔ رجلٌ نفيس : حاسد، شيٌ نفيس : پسندیدہ عمدہ چیز، اس کے مقابلہ میں خسیس آتا ہے۔ مالٌ نفيس : بہت مال۔ الأنفَس : اسم تفضیل، زیادہ دور یا وسیع۔ زیادہ قیمتی و مہنگا، کہا جاتا ہے : هذا الثوبُ انفسُ من ذاك : یہ کپڑا اس سے زیادہ لمبا یا زیادہ معیاری ہے۔ هذا

المکانُ انفسُ من هذا: یہ جگہ اس جگہ سے زیادہ دور اور وسیع ہے۔ کہا جاتا ہے: هذا انفسُ مالي: یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قیمتی مال ہے۔ هذا انفسُ مالي: یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قیمتی مال ہے۔ المُنفِس (فا): ہر وہ چیز جس کی کوئی قیمت اور اہمیت ہو۔ مالٌ مُنفِسٌ: بہت مال۔ مال مُنفَس: بہت مال۔ المَنفوس: نوزائدہ بچہ۔ شیٔ مَنفُوسٌ: نفیس پسندیدہ چیز۔ المُتنفَّس: سانس کا راستہ (جگہ)

۵ تَنَفَّسَ الحسرات المولمة: تکلیف دہ آہیں بھرنا۔ تَنَفَّسَ الصعداء: گہرا سانس لینا، آرام کا سانس لینا، دوبارہ سانس لینا۔ تَنَفَّسَ النَفَسَ الاخير: دم واپسین پر ہونا۔ مرنے لگنا۔ تَنَفَّسَ عن الحياة: آخری سانس لینا، مرجانا۔ بنفسه: وہ خود، اصالۃ، بذات خود۔ نحن بنفوسنا: ہم خود، في نفس الامر: درحقیقت، دراصل، فی الواقع۔ في نفس الواقع: درحقیقت، دراصل، فی الواقع۔ عند انفسهم: ان کی اپنی رائے میں۔ جاء نی هو نفسه (بنفسه): وہ خود میرے پاس آیا، وہ بذات خود مجھے ملنے آیا، جاء من نفسه: وہ اپنی مرضی سے آیا۔ ما وعدت به فيما بيني و بين نفسي: جو کچھ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ نفس الامر: معاملہ کی حقیقت، اصل حقیقت، معاملہ کی نوعیت، نفسُ الشي: وہی چیز الاعتماد على النفس یا الثقة بالنفس: خوداعتمادی، بشِقّ النفس یا بِشِقّ الانفس: بڑی مشکل سے، بمشکل۔ صغيرُ النفس: کمینہ ذہن والا۔ عفيف النفس: بےغرض، بےنفس، جس کو اپنا فائدہ مقصود نہ ہو، ایثار آمیز۔

علم النفس: نفسیات، علم النفس۔ كبير النفس: عالی منش، عالی ظرف، محبة النفس: خودغرضی، مطلب پرستی۔ بَذلَ النفسَ و النفيسَ: سب کچھ قربان کرنا۔ التحليل النفسي: تحلیلی نفسیات۔ حالة نفسيه: ذہن کی حالت، موڈ (Mood) حتى النَفَس الاخير: آخری سانس تک۔ ضِيقُ النفس: دمہ۔ هو في نفس من امره: وہ اپنی خواہشات کے مطابق کرتا ہے۔ انت في نَفَسٍ من امرك: جو آپ کو اچھا لگے کرسکتے ہیں۔ امسك انفاسه: سانس روکنا فاضت انفاسُهُ: مرجانا۔ طب نفساني: نفسیاتی امراض کا علاج Psychiatry عالم نفساني: ماہر نفسیات۔ نَفسانِيَة: نفسیات (psychology) حُمَّى النِفاس یا حُمّی نِفاسیه: زچگی کا بخار، مَنفَس جمع مَنافِس: سانس لینے کا سوراخ، ہوا کا سوراخ، والو (Valve) تنفيس: ہوا کے آنے جانے کا انتظام۔ ہوادار بنانا۔ تَنَفُّس: سانس، سانس لینا، مُنافَسَه جمع مُنافسات: ریس، ہمسری کی کوشش، مقابلہ، رقابت، مدمقابل ہونا، میچ (Match) مبارزت، مسابقت۔ تَنافُسٌ على: کیلئے جنگ، جدوجہد، تَنافس حَيَوِي: جہد للبقاء، جہد حیات۔ تنازع للبقاء Struggle for existence۔ مُتَنَفَّس: آزادی سے سانس لینے کی جگہ، سانس لینے کی جگہ، (کیلئے) کھلا امکان یا موقع، آزاد ماحول، امداد، اعانت، بچنے کا ذریعہ، نجات، چھٹکارا، نکلنے کا راستہ

نقش: ا۔ نَفَشَ ـُ نَفْشًا و نَفَّشَ القطنَ او الصوفَ: روئی یا اون دھننا۔ عوام کہتے ہیں: نفش فلانٌ فلانًا: فلاں نے فلاں کی تعریف کی تو وہ خود پسند اور مغرور ہوگیا۔ ـَ ونَفِشَ ـَ نَفَشًا الابلُ او الغنمُ: رات کو اونٹوں اور بکریوں کا چرواہے کے بغیر چرنا۔ صفت نافِشَة و نُفّاش و نَوافِش و نُفَّش: ـ اسم النَفَش۔ اَنْفَشَ الراعِي الابلَ: چرواہے کا رات کے وقت اونٹوں کو چرنے کیلئے چھوڑ دینا۔ تَنَفَّشَ الطائرُ: پرندہ کا پروں کو جھاڑنا۔ ـ ت الهرَّةُ: بلی کا بال کھڑے کرنا۔ ـ ت الابلُ: اونٹوں کا رات کے وقت چرواہے کے بغیر چرنا۔ اِنتَفَشَ ت الهرةُ: بلی کا بال کھڑے کرنا۔ ـ الصوفُ: اون کا دھنا جانا۔ النَفَش: دھنی ہوئی اون، متفرق سامان، کلام وغیرہ کی کثرت۔ ابلٌ او غنم نَفَشٌ: رات کے وقت چرواہے کے بغیر چرنے والے اونٹ یا بکریاں۔ النَفَش صرف رات کو ہوتا ہے جبکہ الهمل رات اور دن دونوں وقت ہوتا ہے کہا جاتا ہے: بَقَرٌ او غَنَمٌ نَفَشٌ و نَوافِش و نُفّاش: رات کے وقت چرواہے کے بغیر چرنے والی گائیں یا بکریاں۔ النَفّاش: متکبر، مغرور، پھولا ہوا۔ (ن) کا ایک قسم کا بڑا لیموں۔ النَفِيش: برتن کی متفرق چیزیں۔ المُتَنَفِّش و المُنتَفِش: پھولا ہوا، نرم، کہا جاتا ہے: انفٌ مُتَفَشٌ و مُنتَفِش: چپٹی ناک۔

۲۔ نَفَشَ ـُ نُفُوشًا القومُ: قوم کا ارزانی میں ہونا، کہا جاتا ہے: بلدٌ ذو نَفْشٍ: زرخیز ملک۔

۳۔ نَفَشَ ـُ نُفُوشًا فلانٌ علی الشي: کو کھانے کے لئے رخ کرنا۔

۵ نَفَشَ ـُ نَفْشًا ہ (اون) تومنا۔ ـ یا ہر کو نکلنا، ابھرنا، آگے نکل جانا، پھیلنا، سوجنا، سوجا ہوا ہونا، چڑیا کا اپنے پر بےترتیب کرنا۔ نَفَّشَ ہ: روئی کو تونبنا، تومنا، دھننا۔ تَنَفَّشَ و اِنتَفَشَ: مغرور ہونا، ہوا یا گیس بھرا ہونا، پروں کو بےترتیب کرنا، روئیں کھڑے کرنا۔ نَفَش: اون، نُفّاشٌ: بڑے لیموں کی ایک قسم۔ منفوش: مغرور، پھولا ہوا، بےترتیب، رونگٹے کھڑے کئے ہوئے، پریشان (بال)، ملائم، روئیں دار (بال اون)

نفص: ا۔ نَفَصَ ـ نَفَصًا ببوله: پیشاب کرنا۔ ـ بالكلمة: کو جلدی بولنا۔ اَنفَصَ ببوله: پیشاب کرنا ـ بالكلمةُ: جلدی بولنا۔ ـ ت الشاةُ ببولها: بکری کا تھوڑا تھوڑا کرکے پیشاب کرنا۔ ـ في الضحك: بہت ہنسنا۔ النُفصَة جمع نُفَص: خون کا فوارہ۔ النُفاص: بکریوں میں پیشاب کی بیماری۔ المِنفاص: بہت ہنسنے والا۔

۲۔ اَنفَصَ الرجلُ بشَفَتَيه: ہونٹوں سے اشارہ کرنا۔

۳۔ النَفِيص: میٹھا پانی۔

نفض: ا۔ نَفَضَ ـُ نَفضًا الثوبَ: کپڑا جھاڑنا۔ ـ الشجرةَ: پتے یا پھل گرانے کیلئے درخت کو ہلانا۔ ـ الورقَ من الشجر: درخت سے پتے گرانا۔ ـ الزرعُ: کھیتی کا آخری خوشہ نکالنا۔ ـ الكرمُ: انگور کی بیل میں خوشے نکلنا۔ ـ ت الابلُ: سب اونٹنیوں کا بچے جننا۔ ـ ت المراةُ: عورت کا بہت اولاد والی ہونا۔ ـ ت الحُمّى: کو بخار چڑھنا، کو بخار کا کپکپا دینا۔ ـ القومُ حَلائبَهم: لوگوں کا اپنے دودھ دینے والے جانوروں کا سب دودھ نکال لینا۔ ـ القومُ: توشہ یا مال سے خالی ہوجانا۔ ـ الثوبُ او الصبغُ: کپڑے یا رنگ کا ماند پڑنا۔ ـ نُفوضًا المريضُ من مرضه: بیمار کا بیماری سے شفایاب ہونا۔ نَفَّضَ الثوبَ او الشجرةَ: کپڑا یا درخت جھاڑنا۔ اَنفَضَ فلانًا عنه: کو اپنے سے دور کرنا، سے دوستی مسترد کرنا۔ ـ القومُ زادَهم: قوم کا توشہ کو ختم کرڈالنا۔ ـ القومُ: قوم کا ختم شدہ یا تباہ شدہ توشہ یا مال والا ہونا۔ ـ ت الابلُ: سب اونٹنیوں کا بچے جننا۔ اِنتَفَضَ الكرمُ: انگوروں کی بیل کا سرسبز ہونا۔ ـ الثوبُ او الشجرُ: کپڑے یا درخت کا جھاڑا جانا۔ ـ الفصيلُ ما في الفرع: اونٹ کے بچے کا تھن کا سارا دودھ چوس لینا۔ اِستَنفَضَ الشيَّ: چیز کو نکالنا۔ النافِض (فا): لرزہ کا بخار، (کہا جاتا ہے: اخذته حُمّی نافضٌ و حُمّی نافِضٍ و حُمّی بنافض: اسے لرزہ کا بخار چڑھ گیا) ثوبٌ نافض: وہ کپڑا جس

کا کچھ رنگ ماند پڑ گیا ہو۔ النِفض: گرے ہوئے پتے یا کھجور۔ النُفَض: جھاڑنے سے گری ہوئی چیز۔ النَفَض جمع نُفُضٌ: گرے ہوئے پتے اور کھجوریں۔ النُفْضَة: کہیں کہیں پڑنے والی بارش۔ ــــ و والنفضا والنَفَاض والنُفَضَاء: بخار کا لرزہ۔ النُفَاض جمع نُفُضٌ: انفض القومُ زادهم سے اسم۔ ـ والنِفاض جمع نُفُضُ: جھاڑے ہوئے سے گری ہوئی چیز۔ النُفَاضَة جمع نُفُض: باقی ماندہ توشہ جو جھاڑا جائے، جھاڑے ہوئے سے گری ہوئی چیز۔ النَفَضَى والنِفِضىّ والنِفِّيضَى: حرکت، کپکپی۔ لرزہ۔ النَفُوض من النساء: بہت اولاد والی عورت۔ النَفَائِض: دبلے اونٹ۔ الإنُفَاض (مص): بھوک، حاجت۔ الأَنَافِيض مفرد أُنْفُوضَة: درخت کی جڑوں میں گرے ہوئے پھل۔ المِنْفَض: چھاج۔ ـ و المِنْفَاض: چادر وغیرہ جس پر پتے یا پھل جھاڑے جائیں۔ المِنُفَضَة عند شرّاب التبغ: خاکستردان (پروں کا جھاڑن، گرد کش (Vacuum cleaner)۔ المُنفِض من الدجاج: انڈوں سے رک جانے والی مرغی۔ المَنفُوض (مفع): لرزہ والے تپ میں مبتلا۔

۳۔ نَفَضَ ـ نُفُضًا المكانَ: جگہ کی اچھی طرح واقفیت کرنا۔ الطریقَ: راستے کا کھوج لگانا، راستہ کو چوروں سے پاک کرنا۔ ـ فلانٌ: چاروں طرف دیکھنا، کہا جاتا ہے: اذا تکلمّت نهارا فانْفُضْ: جب تو دن کو باتیں کرے تو دیکھ لے کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جسے تو ناپسند کرتا ہو۔ تَنَفَّضَ المكان: جگہ کو اچھی طرح دیکھنا تاکہ پہچان سکے۔ إسْتَنْفَضَ المكانَ: جگہ کو اچھی طرح دیکھنا تاکہ پہچان سکے۔ ـ القومَ: لوگوں کو توجہ سے دیکھنا۔ ــــ الامیرُ: امیر کا جاسوس بھیجنا۔ النَفَضَة: جاسوسوں کی جماعت۔ النَفِيضَة جمع نَفَائِض: جاسوسوں کی جماعت۔ النفائِض: کنکروں کے ساتھ غیب کی باتیں بتانے والے۔

۳۔ النِفَاض جمع نُفُض: بچوں کا تہمند، کہا جاتا ہے: ماعليه نِفاض: اس کے تن پر کپڑے کی قسم کی کوئی چیز نہیں۔

○ نَفَضَ ـ نُفُضًا ہ: کو ہلانا۔ ـ ہ عن: سے کچھ ہلا کر گرانا۔ ــــ ہ: کو جھاڑنا۔ ــــ ہ: سگرٹ سے راکھ جھاڑنا۔ ـ ہ: بخار کا کسی پر لرزہ یا کپکپی طاری کرنا۔ ـ ــــ نُفُوضًا من: سے شفایاب ہونا۔ نفض عنه الكسلَ او نفض غبارَ كسلِهِ: سستی یا کاہلی جھٹکنا، نفض غبارَہ: گرد جھاڑنا کی انتہا کو پہنچنا، نفض عنه الهم: غموں کو اپنے سے دور کرنا، پریشانی جھاڑ دینا۔ نفض فی لعب الاوراق: تاش سے جوا کھیلنا، نفض يده من الامر: سے خلاصی پانا، کو ترک کر دینا، پر لات مارنا، سے تعلق سے انکار کرنا، نفض يده من يد فلان: سے میل جول نہ رکھنا، دور رہنا، مراسم نہ رکھنا۔ نَفَّضَ ہ: کو زور سے ہلانا، جھاڑنا۔ گرد جھٹکنا۔ أنْفَضَ ہ: مکمل طور پر خرچ کر ڈالنا۔ ـ تمام ذرائع سے محروم ہو جانا، مفلس ہو جانا، کنگال ہو جانا۔ ـ ہ عن: کو سے ہٹانا، برخاست کرنا۔ إنتفض: ہلنا، جھاڑا جانا، کانپنا، رونگٹے کھڑے ہونا، ــــ من: سے کانپنا، لرزنا، تھرانا۔ إنتفض واقفًا: چونک اٹھنا، خوف سے اچھل پڑنا، اچھل کر پاؤں پر کھڑا ہو جانا۔ نَفَض: جو چیز ہلا کر گرائی جائے یا گرے۔ غابة نفضية: پت جھڑا جنگل، گھنا جنگل۔ نَفَضَة: جاسوسی یا دیکھ بھال کا گروہ دیکھ بھال کی گشت، نُفَاضة: ہلا کر گرائی جانے یا گرنے والی چیز۔ نفيضة بمعنی نَفَضَة، مِنْفَض: چھلنی، إنتفاض: ہلنا، کانپنا، لرزنا، کپکپانا، تھرتھرانا، کپکپی، لرزہ، رعشہ۔ إنتِفَاضَة: کپکپی، لرزہ، رعشہ، بیداری، اٹھنا، جاگنا، بغاوت۔

نفط: ۱۔ نَفَط ـ نَفْطًا: غضبناک ہونا، غصہ سے آگ بگولا ہونا۔ ـ نَفْطًا و نَفِيطًاتِ العنزةُ: بکری کا چھینکنا۔ ـ ت القِدرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ ــــ الظبیُ: ہرن کا آواز نکالنا۔ ـ الرجلُ: غیر مفہوم کلام کرنا۔ تَنَفَّطَ: غضبناک ہونا، غصہ سے آگ بگولا ہونا۔ تَنافَطَ ت القدرُ: ہانڈی کا جھاگ پھینکنا۔ النَاقِطة: بکری۔ رغوةٌ نافِطة: بلبلوں والی جھاگ۔ النُفَط: واحد نُفْطَة: رگڑ سے آگ پکڑنے والے مادہ کی تیلیاں۔ عام لوگ اسے شُخَيْطَة یا كبريته کہتے ہیں (یعنی ماچس کی تلی) ــــ والنِفط (ك): بہت جلد آگ پکڑنے والا معدنی تیل۔ النُفَطَة: جلد غضبناک ہونے والا۔ النَفَّاط جمع نَفَّاطَة و نَفَّاطون: کان سے نفط نکالنے والا، نفط پھینکنے والا۔ النَفَاطَة و النَفَّاطَة: نفط کی کان، پٹرول کا کنواں، ایک قسم کا چراغ، تانبے کا آلہ جس سے آگ اور نفط پھینکا کرتے تھے، کہا جاتا ہے۔ خرج النفّاطون بايديهم النفّاطات: نفط پھینکنے والے نکلے ان کے ہاتھوں میں آگ اور نفط پھینکنے کے آلے تھے۔ النَفَاطان: غصہ و غضب کے وقت کھانسی اور غرور کی مانند۔

۲۔ نَفِطَ ـ نَفْطًا و نَفَطًا و نَفِيطًات يدُہ: ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔ تَنَفَّطَ ت اليدُ: ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔ يُد نافِطَة: آبلہ والا ہاتھ۔ النُفَط: چیچک، ہاتھ کا آبلہ۔ النَفْطَة والنِفْطة والنَفِطة: ہاتھ کا آبلہ، چیچک۔ النَقّاطَة: آبلہ۔ النَفِيط والمنفُوط م نَفِيطَة ومَنْفُوطَه: ہاتھوں میں آبلوں والا۔

○ نَفْط: پٹرولیم، نَفْطی: پٹرولیم والا، پٹرولیم میں بھیگا ہوا تر کیا ہوا، تیل کا، پٹرولیم کا، مِصْبَاحٌ نَفْطِی: تیل کا لیمپ۔ نَفْطَة: آبلہ، چھالا۔ نُفَطَة: زود غضب، زود حس، گرم مزاج، مُنَقِّط: آبلے ڈالنے والا۔

نَفَع: ۱۔ نَفَعَ ــــ نَفْعًا ہُ بكذا: کو کا فائدہ دینا۔ أَنْفَعَ الرجُلُ: لاٹھیوں کی تجارت کرنا۔ إنْتَفَع به ومنه: سے فائدہ اٹھانا۔ إسْتَنْفَعَ ہُ: سے فائدہ طلب کرنا۔ النَافِع (فا): اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک اسم جو اپنی مخلوق میں جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ النَافِعَة: وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے کہا جاتا ہے: مانَفَعَنی فلانٌ بنافِعَةٍ: فلاں شخص نے مجھے کسی فائدہ اٹھانے والی چیز سے فائدہ نہیں دیا۔ النَفْع: فائدہ نفع۔ النَفْعِیّ: نفع اندوز۔ ناجائز نفع حاصل کرنے والا۔ النَفْعِيَّة: نفع اندوزی۔ النَفْعَه جمع نَفَعات: ایک بار کا فائدہ، ایک قسم کا عصا، جس کو زمین پر فائدہ کیلئے مارتے ہیں۔ النِفْعَة جمع نِفْع ونِفَع: نفع کی قسم۔ النَفَاع و النَفِيعَه: فائدہ، منفعت، کہا جاتا ہے: هو حاضرُ النفيعة: وہ تیز نفع اور منفعت والا ہے۔ النُفَاعَة: ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے۔ النَفّاع: بہت فائدہ دینے والا۔ النَفُوع جمع نُفُع: بہت فائدہ دینے والا المَنْفَعَة جمع مَنَافِع: ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے، فائدہ، مَنافِعُ الدار: گھر میں آرام کی چیزیں، جیسے کنواں، غسل خانہ وغیرہ۔

۲۔ النِفْعَة جمع نِفْع و نِفَع: چمڑے کا تسمہ جو توشہ دان کے پہلوؤں پر لگا ہوتا ہے۔

○ نَفَعَ ـ نَفْعًا ہ: کیلئے مفید، کارآمد، سودمند یا منفعت بخش ہونا، کی مدد کرنا، کو فائدہ، مدد یا کام دینا۔ ــــ ل: کے لئے قابل استعمال ہونا، کے گھر کا انتظام چلانا، کی جانب سے خدمت سرانجام دینا۔ لاینفع: بے کار، فضول، ناکارہ۔ نَفَّعَ ہ: کو برتنا، استعمال میں لانا، کو استعمال کرنا، کا مصرف ڈھونڈنا۔ إنْتَفَعَ ب / من: کو استعمال کرنا، کو استعمال میں لانا، سے فائدہ اٹھانا، سے اچھا فائدہ اٹھانا، سے استفادہ کرنا، کا لطف اٹھانا، سے لطف اندوز ہونا۔ إسْتَنْفَعَ ہ بمعنی نَفَّعَ ہ نَفْعِی: اپنے فائدہ کیلئے پوری طرح سے لگا ہوا، خود غرض، مطلب پرست، مطلبی، نفع اندوز، نفّاع: بہت کارآمد، بہت مفید۔ نَفُوع جمع نُفُع: بہت مفید، بہت کارآمد۔ مَنْفَعَه جمع مَنَافِع: فائدہ، نفع، مدد، کام، استعمال،

سودمند یا منفعت بخش استعمال، کارآمد خدمت، کسی قابل استعمال چیز کی پیداوار یا حق کی پیداوار، زرعی پیداوار، عوامی ادارہ، محکمہ، عوامی خدمت کی سہولت، منافع عامۃ (عمومیہ) عوامی خدمت کی سہولتیں، آسانیاں، عوامی استعمال کے لئے دستیاب جائیداد، منافع صِحِّیَة: صحت اور صفائی سے متعلق سہولتیں۔ نَافِعَه: تعمیرات عامہ، وزیر النافعه: وزیر تعمیرات عامہ (minister of public works) منتفع: فائدہ اٹھانے والا، حق استعمال و استفادہ بلا ملکیت والا۔ نَافِع: مفید، کارآمد، سودمند، فائدہ مند، انتفاعی، بہتر، نفع رساں، نافع، قابل استعمال، دیرپا، صحت بخش، خوشگوار۔

نفغ: نَفَغَ ـ نَفْغًا و نُفُوغًا و نَفِغَ ـ نَفَغًا و تَنَفَّغَت يدهُ: ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔

نفق ا۔ نَفَقَ ـ نَفَاقًا الشي: ختم ہونا، فنا ہونا، کم ہونا۔ البيعُ: بیع کا رائج ہونا۔ ـــ ت السوقُ: گرم بازاری ہونا۔ ـــ نُفُوقًا الرجُلُ او الدابَّةُ: مرد یا جانور کا مرنا، کی جان نکلنا۔ ـ الجرحُ: زخم کا چھلنا۔ نَفِقَ ـ نَفَقًا الشيُّ: ختم ہونا، فنا ہونا، کم ہونا۔ نَفَّقَ البضاعةَ: سامان (تجارت) کو رواج دینا۔ أنْفَقَ: محتاج ہونا، کا توشہ ختم ہونا۔ ـ المالَ: مال صرف کرنا، خرچ کر ڈالنا۔ ـــ السلعةَ: سامان (تجارت) کو رواج دینا۔ ـ القومُ: قوم کی تجارت کا خوب چلنا۔ ـ الرجُلُ: اپنے سامان کی گرم بازاری پانا۔ اپنے سامان کو بکنے کے قابل پانا۔ إسْتَنْفَقَ المالَ: مال ختم کر دینا۔ النَافِق فا ـ ہ البضائع: بکنے کے قابل سامان۔ گرم بازاری والا سامان النَافِقَة: نافق کا مونث۔ النَفِق: جلد منقطع ہونے والا، کہا جاتا ہے: فرسٌ نَفِقُ الجرى: تھوڑا سا چل کر رک جانے والا گھوڑا۔ النَفَقَة جمع نَفَقَات و نِفَاق و أنْفَاق: انفاق کا اسم۔ خرچ۔ المِنْفَاق: بہت خرچ کرنے والا۔ المَنْفَقَة: تجارت کی گرم بازاری کا وقت یا جگہ۔ اليمينُ الكاذبة مَنْفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَةٌ للبركة: جھوٹی قسم سے سامان تجارت تو خوب بکتا ہے مگر برکت جاتی رہتی ہے۔

۲۔ نَفَقَ ـ و نَفِقَ ـ نَفَقًا اليربوع: جنگلی چوہے کا اپنے بل سے نکلنا۔ بل میں داخل ہونا (ضد) نَفَّقَ اليربوع: جنگلی چوہے کا اپنے بل سے نکلنا، بل میں داخل ہونا (ضد)۔ نَافَقَ مُنَافَقَةً و نِفَاقًا اليربوعُ: جنگلی چوہے کا بل میں داخل ہونا۔ ـ في دِينه: دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنا۔ صفت مُنَافِق۔ تَنَفَّقَ اليربوعَ: جنگلی چوہے کو اس کے بل سے نکالنا۔ ـــ اليربوعُ: جنگلی چوہے کا بل سے نکلنا، بل میں داخل ہونا (ضد)۔ إنْتَفَقَ الرجُلُ: سرنگ میں داخل ہونا۔ ـ اليربوعُ: جنگلی چوہے کا بل میں داخل ہونا، بل سے نکلنا۔ (ضد)۔ ـ اليربوعَ: جنگلی چوہے کو بل سے نکالنا۔ النَافِقة: مشک کا نافہ۔ النَافِقَاء جمع نَوَافِق و النُفَقَة و النُفَقَاء: جنگلی چوہے کا ایک بل جسے وہ چھپائے اور دوسرے کو ظاہر کرے۔ النَفَق جمع أنْفَاق: سرنگ۔ نفق السكة الحديدية: ریل کی سرنگ۔ النِفَاق (مص): منافقت۔ المُنَافِق: دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنے والا۔ المنافقَة (مص): نفاق، منافقت۔

۳۔ نَيْفَقُ السروال: پائجامہ کا نیفہ۔

○ نَفَقَ ـ نَفَاقًا: (سامان تجارت کا) خوب بکنا، منڈی تیار پانا، تجارت کا بازار گرم ہونا، سرگرم ہونا۔ نَفَقَ و نَفِقَ ـ نَفَقًا: صرف ہو جانا، خرچ ہو جانا (ذخیرہ، اشیائے خورنی اور روپیہ کا) ختم ہو جانا، کم پڑ جانا۔ نَفَقَ ـ نُفُوقًا: مر جانا۔ نَفَّقَ: (سامان تجارت کا) بکنا۔ نَافَقَ: منافقت کرنا، نیت کو پوشیدہ رکھنا، دلی جذبات چھپانا، مکاری کرنا، ریاکاری سے کام لینا۔ نَافَقَ ضميرَهُ: ضمیر کی ہدایات کے برعکس کرنا۔ أنْفَقَ ہ علی: کو کیلئے خرچ کرنا۔ ـ ہ: کو خرچ کر ڈالنا، ختم کر ڈالنا، ضائع کرنا، گنوانا، اڑانا، برباد کرنا، وقت گزارنا، خرچ کرنا۔ ـ علی: کے گھر کا خرچ چلانا، کی کفالت کرنا، کا کفیل ہونا، کا سہارا ہونا، کے اخراجات برداشت کرنا۔ تَنَفَّقَ بِكِذْبَةٍ علی: سے جھوٹ بولنا، إسْتَنْفَقَ ہ علی: (روپیہ) کے لئے خرچ کرنا، ضائع کرنا۔ نَفَقَة جمع نَفَقَات و نِفَاق: خرچ، صرفہ، قیمت، دام، مول (پر) لگا ہوا سرمایہ (پر) کیا ہوا خرچ، رقم، صرف، خرچ کی ادائیگی، روپیہ کی ادائیگی، گزارے کا خرچ، نان نفقہ، روٹی کپڑا، پالنا، بیوی کی کافی کفالت، مخیرانہ تحفہ۔ علی نفقته: کے خرچ پر۔ قليلُ النفقات: سستا، نَفَاق: تجارت کی گرم بازاری، اچھا کاروبار، سامان کا بکنا، مِنْفَاق: مال ضائع کرنے والا، فضول خرچ، عیاش، اوباش لفنگا، نَافِق: خوب بکنے والا، قابل فروخت سامان تجارت، سامان تجارت جس کی مانگ ہو۔

نفل: ا۔ نَفَلَ ـ نَفْلًا الرجُلَ: کو عطیہ دینا۔ ـ ہُ النَفَلَ: کو زائد عطیہ دینا۔ ـــ القائدُ الجند: سپہ سالار کا فوجیوں میں مال غنیمت بانٹنا۔ نَفَّلَ ہُ: کو اس کے حصہ سے زیادہ دینا۔ ـ ہُ النفلَ: کو زائد عطیہ دینا۔ أنْفَلَ ہُ النَفَلَ: کو زائد عطیہ دینا۔ تَنَفَّلَ: نوافل پڑھنا۔ ـ علی اصحابه: مال غنیمت ساتھیوں سے زیادہ لینا۔ ـــ منه الشيءَ: کو سے طلب کرنا، إنْتَفَلَ: نوافل پڑھنا۔ ـــ الشيءَ من فلان: کو سے طلب کرنا، النَافِلة جمع نَوَافِل: جو نہ فرض ہے نہ واجب۔ پوتا، غنیمت، عطیہ، بخشش، کہا جاتا ہے: هو كثيرُ النَوَافِل: وہ بہت عطیے دینے والا ہے۔ النَفْل: واجبات اور فرائض سے زائد کام، ایسا کام جو نہ تو فرض ہے نہ واجب۔ النَفَل جمع نِفَال و أنْفَال: (مال) غنیمت، ہبہ، زیادتی، بخشش۔ کہا جاتا ہے: لهذا نفل على ذالك: یہ اس پر زائد ہے۔ ـــ: واحد نَفَلَة (ن): ایک قسم کا خوشبودار گھاس۔ النُفَل: قمری مہینہ کی تین راتیں (چوتھی، پانچویں اور چھٹی) النوفل جمع نَوَفَلون: بہت فیاض، عطیہ، سمندر۔

۲۔ نَفَلَ ـ نَفْلًا: قسم کا کھانا۔ ـــ الرجُلَ عن نسبه: کو نسبت سے خارج کرنا۔ کہا جاتا ہے: أنْفُلْ عن نفسك ان كنت صادقًا: اگر تم سچے ہو تو تمہارے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں ان کی نفی کرو۔ نَفَّلَ ہُ: کو قسم کھلانا۔ ـــ عن فلان: سے ہٹانا۔ أنْفَلَ له: قسم کھانا۔ إنْتَفَلَ: قسم کھانا، معذرت کرنا۔ ـ من الامر او الكلام: سے بری ہونا، کہا جاتا ہے: قال لي قولًا فانتفلتُ منه: اس نے مجھ ایک بات کہی تو میں نے اس کا انکار کیا اور اس سے بریت کی۔ ـ من القوم: قوم کی مدد کرنے سے دور رہنا۔

۳۔ النَوْفَل جمع نَوفَلون: خوبصورت نوجوان۔ (ح): نر بچو۔ النَوْفَلة: نمک دانی

○ تَنَفَّلَ و انْتَفَلَ: فرض یا واجب سے زیادہ کام کرنا، نوافل ادا کرنا سخاوت کرنا، خیرات کرنا۔ نَفْل: فرض منصبی سے زیادہ کام، خصوصاً نوافل۔ نَفَل جمع أنْفَال و نُفُول و نِفَال: مال غنیمت، چوری کا مال، لوٹ کھسوٹ، تحفہ، من نافلةِ القول أن: یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ...... یہ کہنا تحصیل حاصل ہے کہ۔

نفه: نَفَهَ ـ نُفُوهًا الرجُلُ: کمزور دل ہونا، بزدل ہونا۔ ـــ الجملُ: اونٹ کا بالآخر رام ہو جانا۔ نَفِهَ ـــ نَفَهًا نفسُهُ: تھکنا۔ نَفَّهَ و أنْفَهَ الناقة: اونٹنی کو تھکا ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: أنْفَهَ لَهُ من مالِهِ: اس نے اس کو تھوڑا مال دیا إسْتَنْفَهَ الرجُلُ: آرام لینا۔ النافِه جمع نُفَّه: تھکا ہوا۔ ـــ و المَنْفُوه: کمزور دل، بزدل۔ جملٌ مُنَفَّهٌ: تھکا ہوا اونٹ۔

نفو: نَفَا يَنْفُو نَفْوًا ہُ: کو ہٹانا۔ نُفَاوَةُ الشيءُ: ردی چیز، باقی چیز۔ النُفْوَة: شہر بدری۔ نُفْوَةُ الشي: ردی چیز

باقی چیز۔

نفی: نَفَی یَنْفِی نَفْیًا عنه: سے باز رہنا، ہٹنا۔ ۔ ہٗ عنه: کو سے ہٹانا، دور کرنا۔ ۔ الشعرُ: بال گرنا۔ ۔ ہٗ: کو نکال باہر کرنا۔ ۔ الرجُلَ: کو قید خانہ میں قید کرنا۔ ۔ الرجُلَ من بلده: کو شہر بدر کرنا۔ ۔ السیلُ الغُثاءَ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ بہا لیجانا۔ ۔ الشیَٔ: کا انکار کرنا۔ ۔ تِ السحابةُ ماءَھا: بادل کا پانی برسانا۔ ۔ نَفْیًا و نَفَیَانًا الصیرفیُّ الدراھمَ: صراف کا روپے پرکھنے کے لئے ان کو بکھیرنا۔ ۔ تِ الریحُ التراب: ہوا کا مٹی اڑا لیجانا۔ نفّی ہٗ: کا زور سے انکار کرنا۔ نافَی مُنافاةً ہٗ: کا تعاقب کرنا، کہا جاتا ہے: ھذا یُنافِی ذالک: یہ اس کی تردید کرتا ہے، یہ اس کے الٹ ہے یا برعکس ہے۔ تَنافَی تَنافِیًا الرجالُ: ایک دوسرے کو دفع کرنا، ایک دوسرے کے مخالف ہونا۔ ۔ تِ الاشیاءُ: ایک دوسرے سے مختلف ہونا، مخالف ہونا۔ اِنتفی: دور ہونا، نکالا جانا۔ دھتکارا جانا ۔ عنه: سے ہٹ جانا۔ ۔ الشعرُ: بالوں کا گرنا۔ ۔ الشیُٔ: ناپائیدار ہونا، قائم نہ رہنا۔ ۔ مِن وَلَدِہ: بچہ کا اپنا ہونے سے انکار کرنا۔ ۔ فلانٌ من فلانٍ: سے کراہیت کے ساتھ اعراض کرنا۔ النَافِی (فا): دھتکارا ہوا، دور کیا ہوا۔ نَفاءُ الشیٔ و نَفاتُہٗ و نُفَیَتُہٗ و نُفایَتُہٗ و نَفایَتُہٗ: ردی چیز، چیز کا بقیہ۔ النَفْیَة جمع نَفَیات: نفی کا اسم مرة۔ کھجور کے پتوں کا دسترخوان جس پر گوشت یا پنیر وغیرہ خشک کیا جائے۔ نَفِیَةُ الشیٔ: ردی چیز، چیز کا بقیہ۔ النفیان (مص): درختوں کی جڑوں میں ہوا سے جمع ہونے والی مٹی، گرے ہوئے پتے۔ منتخب فوج السَفِیّ: منتخب فوج نابود کیا ہوا، ہانڈی سے ابلتے وقت پھینکا ہوا پانی چکی کا پھینکا ہوا آٹا، کھجور کے پتوں سے بنائی ہوئی ڈھال، گھوڑوں کے سموں سے بکھری ہوئی مٹی پتھر وغیرہ، درختوں کی جڑوں میں ہوا کی جمع کی ہوئی مٹی، کہا جاتا ہے: ھذا ابنٌ نفیٌّ: یہ وہ لڑکا ہے جس کا بیٹے ہونے سے باپ نے انکار کردیا۔ نَفِیُّ الشیٔ: ردی چیز، چیز کا بقیہ۔ النَفِیَّة: نفی کا مونث۔ کھجور کے پتوں کا دسترخوان جس پر گوشت یا پنیر سکھایا جاتا ہے۔ المَنفَی جمع مَنافٍ: جلاوطن کی جگہ۔ المَنفِیّ: دور کیا ہوا، ہٹایا ہوا، معدوم، دھتکارا ہوا، جلاوطن کیا ہوا۔ المَنفِی فی الکلام: تردید کیا ہوا، نفی کیا ہوا۔

نفا ۔ نَفْوًا و نفی ۔ نَفْیًا من / عن: کو سے نکالنا، بے دخل کرنا، محروم کرنا، جلاوطن کرنا، خارج کرنا۔ ۔ ہٗ: کو ہٹانا، بے دخل کرنا، شہر بدر کرنا، دیس نکالا دینا، جلاوطن کرنا، ملک بدر کرنا۔ ۔ ہٗ: کی تردید کرنا، کو غلط ثابت کرنا، کی تغلیط کرنا، کے خلاف دلائل دینا، سے قطع تعلق کرنا، کو اپنانے سے انکار کردینا، کی تکذیب کرنا، کو رد کرنا، کو تسلیم نہ کرنا، کی صحت قبول کرنے سے انکار کردینا، کا تعین نہ کرنا، کو باور نہ کرنا، کو نامنظور کرنا، مسترد کرنا، کو دل سے نکال دینا، ترک کر دینا، کو (بےکار سمجھ کر) پھینک دینا، سے بے تعلقی بالاعلمی ظاہر کرنا، سے انکار کرنا، (کسی شے کے علم کا) انکار کرنا، کو نا ماننا، کو قبول نہ کرنا، کی اجازت نہ دینا، (کو لینے سے) انکار کرنا، کو خارج کرنا۔ ۔ : نفی کرنا (گرامر) نافَی ہٗ: کا تعاقب کرنا، پیچھا کرنا۔ ۔ ہٗ: کو خارج کرنا، کی تردید کرنا، کے برعکس ہونا، کے خلاف ہونا، سے متضاد، کے خلاف، ناموافق، سے بے جوڑ، مخالف، غیر مطابق یا بے ربط ہونا۔ تَنافَی: باہم کم آمیز یا متضاد ہونا یا برعکس یا الٹ ہونا، متضاد، عکس یا الٹ ہونا۔ اِنتَفَی: جلاوطن ہونا، نکالا جانا، تردید کیا جانا، غلط ثابت ہونا، زیر بحث لایا جانا، انکار کیا جانا، گرنا، گرایا جانا، کم ہونا، ترک کیا جانا، نہ کیا جانا، چھوڑا جانا، غیر موجود ہونا، موجود نہ ہونا۔ اِستَنفَی ہٗ: کو بےکار، ناکارہ، فضول، ناقابل قبول سمجھ کر مسترد کرنا، شاھد نفی: صفائی کا گواہ (بمقابلہ شاھدُ اِثبات: استغاثہ کا گواہ)۔ نَفِی: انکار کیا ہوا، مسترد کیا ہوا۔ نَفاء و نَفاۃ و نَفاوَۃ: بےکار، ناکارہ یا فضول سمجھ کر مسترد کی ہوئی چیز، فُضلہ، ردی، سکریپ، آخور، بیکار گوشت، (جیسے چھیچھڑے اوجھڑی وغیرہ) کوڑا کرکٹ، آلائش، گلی سڑی چیزیں۔ نَفایات: بول و براز، گوبر۔ نَفایَۃ جمع نَفایات: بمعنی نَفاء و نَفاۃ و نَفاوَۃ: نیز، بقیہ، باقی ماندہ، بچا کھچا، بےکار سمجھ کر پھینکی ہوئی چیز۔ مَنفًی جمع مَنافٍ: جلاوطنی کی جگہ، جلاوطنی۔ مُنافاۃ: تردید، تضاد، عکس، تباین۔ تَنافٍ: باہمی تضاد، انتفاء: غیر موجودگی، کمی، قلت، احتیاج، مُنافٍ: متضاد، عکس، الٹ۔ مَنفِی: مسترد کیا ہوا، نامنظور کیا ہوا، انکار کیا ہوا، تسلیم نہ کیا ہوا، نفی کیا ہوا، منفی، جلاوطن کیا ہوا۔

نق: ۱۔ نَقَّ ۔ نَقِیقًا الضفدعُ: مینڈک کا ٹرانا۔ (اسی طرح مرغی، چکور، بچھو، شتر مرغ وغیرہ کی آواز کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے)۔ کہا جاتا ہے۔ نَقَّتْ ضفادعُ بطنه: اس کو بھوک لگی، عام لوگ کہتے ہیں۔ نَقَّ الولدُ: لڑکے نے بہت شکایت کی۔ ضرب المثل ہے ثلاثة لاتطاق النقُّ و الطقُّ و البقُّ: تین چیزیں ناقابل برداشت ہیں، ٹرانا، دھماکہ اور مچھر۔ اَنَقَّ: مینڈک وغیرہ کا ٹرانا۔ النَقّاق: بہت ٹرانے والا۔ (ح): مینڈک۔ النقّاقة: نقاق کا مونث (ح): مینڈک۔ النقُون جمع نُقُق و نُقّ: چلانے والا۔ ضفدع نقوق: ٹرانے والا مینڈک۔ النقیقیات (ح): ایک خلیہ والے چھوٹے جانور، میٹھے ٹھہرے ہوئے یا جاری پانی اور سمندر میں بکثرت ہوتے ہیں، ان کے جسم پر موٹی سمور ہوتی ہے جو حرکت کرنے یا غذاء کیلئے ان کی مدد کرتی ہے۔

۲۔ نَقْنَقَ الضفدعُ: مینڈک کا ٹرانا۔ ۔ تِ العینُ: آنکھ کا اندر کو گھسا ہوا ہونا۔ النِقْنِیق جمع نَقانِق: نر شتر مرغ۔

۳۔ النقانِق (فا): لمبے پتلے ٹکڑوں میں کاٹ کر سکھایا ہوا گوشت یا پھل، انہیں مقانق بھی کہا جاتا ہے۔

نَقَّ ۔ نَقِیقًا: مینڈک کا ٹرانا، (مرغی) کا کڑکڑ، کٹ کٹ کرنا۔ نَقّاق: اکھڑ، بدمزاج شخص، چڑچڑا، ترش رو شخص، بڑبڑانے والا، شاکی، شکوہ مند، شکوہ سنج۔ نکتہ چین، عیب جو۔ نَقّاقہ: مینڈک۔ نَقِیق: (مینڈک کی) ٹرٹر، (مرغی کی) کڑکڑ، کٹ کٹ۔

نقب: ۱۔ نَقَبَ ۔ نَقْبًا الحائطَ: دیوار میں سوراخ کرنا۔ ۔ الخفَّ: موزے میں پیوند لگانا، کہا جاتا ہے: نَقَبَت النکبةُ فلانًا: فلاں پر مصیبت آپڑی۔ ۔ فلانٌ فی الارض: زمین میں جانا۔ ۔ عن الاخبار: خبروں کی تحقیق کرنا یا خبر دینا۔ نِقابةً و نَقُبَ ۔ نَقابةً علی القوم: قوم کا سردار ہونا۔ (نِقابة اسم اور نَقابة مصدر ہے) نَقِبَ ۔ نَقَبًا علی القوم: قوم کا سردار ہونا۔ ۔ الخفُّ الملبوسُ: پہنے ہوئے موزے کا پھٹا ہوا ہونا۔ ۔ البعیرُ: اونٹ کا گھسے ہوئے کھر والا ہونا۔ ۔ الرجُلُ: پہاڑی راستوں پر چلنا۔ ۔ فی البلاد: ملک میں جانا۔ نَقَّبَ عن الشی: بات کی کرید کرنا، تحقیق کرنا۔ ۔ فی الارض: (فرار ہوتے ہوئے) ملک میں سفر کرنا۔ ناقَبَ نِقابًا و مُناقبةً ہٗ: سے مناقب میں فخر کرنا۔ اَنقَبَ البعیرُ: اونٹ کے کھروں کا گھسا ہوا ہونا۔ ۔ الرجُلُ: سردار ہونا۔ ۔ فلانٌ: گھسے ہوئے کھر والے اونٹ کا مالک ہونا۔ ۔ فی الارض: زمین پر سفر کرنا۔ تَنَقَّبَ عن الشی: کی بہت کرید اور تحقیق کرنا۔ النَاقِب فا ۔ (طب) پہلو کا ناسور۔ النَاقِبة: ناقب کا مونث، (طب) پہلو کا ناسور۔ النَقَب (مص) پہاڑی راستہ۔ (طب) پہلو کا ناسور، کھجلی خارش ۔ جمع نِقاب و اَنقاب: سوراخ۔ نَقبُ العین: موتیابند کے پانی کا علاج۔ النُقْب: کھجلی، خارش ۔ جمع نِقاب و انقاب: پہاڑی راستہ۔ النُقَب: کھجلی، خارش۔ النقبة: منہ ڈھانکنے کا

انداز، کہاجاتا ہے: امرأۃ حسنۃ النِقبَۃ: منہ
ڈھانکنے کے خوبصورت اندازوالی عورت۔ انّ علیہ
نِقبَۃً من کذا: اس پر کسی کا نشان ہے۔ النُقبَۃ جمع
نُـقَـب: چہرہ، کھجلی کا آغاز یا شروع، زنگ، سوراخ،
النِقاب (مص) جمع نُقُب: بڑا عالم۔ پہاڑی راستہ،
پیٹ، ضرب المثل: فرخان فی نِقاب: دوشخص شکل و
شباہت میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ النِقابَۃ:
یونین۔ النَقّاب کاموں میں گھس جانے والا، کاموں
کو بہت دریافت کرنے والا۔ النَقِیب: سوراخ دار
(مو) بانسری، ترازو کی زبان۔ ــ جمع نُقَباء: قوم کا
سردار یا نمبردار یا گواہ یا ضامن، چیف یا کیپٹن کے رتبہ
کے برابر رتبہ والا۔ نقیبُ الاشراف عند المسلمین:
رسول اللہ کی نسل کا سربراہ، یونین وغیرہ کا منتخب صدر۔
کلبٌ نقیبٌ کتا جس کے نرخرے میں سوراخ کیا
گیا ہو۔ النقیبۃ: نقیب کا مونث۔ روح، عقل،
طبیعت، مشورہ، رائے کا نفاذ، کہا جاتا ہے فلانٌ
میمونُ النقیبۃ: فلاں شخص قابل ستائش تجربہ کا مالک
ہے۔ الأنقاب: کان (جمع اس کا واحد نہیں آتا)
المَنقَب: جانور کے پیٹ میں سوراخ کرنے کی جگہ۔
المَنقِب جمع مَناقب: پہاڑی راستہ۔ المِنقَب:
بحث و تحقیق کرنے والا عالم، نشتر، پہاڑی راستہ۔ ــ
والمِنقَبَۃ: نشتر۔ المَنقَبَۃ جمع مَناقِب اچھا کام،
کارنمایاں، شاندار خصوصیت یا وصف، خوبی، کمال،
دیوار، پہاڑی راستہ، دو گھروں کے درمیان تنگ
راستہ۔ مَناقِب الانسان: انسان کے عمدہ خصائل اور
ستودہ اخلاق۔

۲۔ نَقَبَ ــ نَقبًا الثوبَ: کی واسکٹ بنانا۔ الفرسُ:
دوڑنے میں گھوڑے کا ٹانگیں جوڑنا۔ تَنَقَّبَ و
اِنتَقَبَت المرأۃُ: عورت کا نقاب باندھنا۔ النِقاب
جمع نُقُب: عورت کا منہ ڈھانپنے کا پردہ۔ نقاب۔
النُقبَۃ جمع نُقَب: بغیر نیفے کا پائجامہ۔

۳۔ نـاقَب نِقابًا ہ کو اچانک ملنا کہا جاتا ہے: وردتُ
الماءَ نِقابًا: میں نے پانی کو طلب کئے بغیر پایا۔

۴۔ النُقبۃ جمع نُقَب: رنگ۔

○ نَقَبَ ــ نَقبًا ہ: میں گہرا سوراخ کرنا۔ کو چیرنا، چھیدنا،
میں چھید ڈالنا، میں شگاف ڈالنا، رخنہ ڈالنا، کو کھودنا، کو
کھود کر نکالنا، کی کھدائی کرنا، کو کھوکھلا کرنا۔ ــ فی: میں
سے گزرنا، کے پار جانا، کے مشرق سے مغرب تک سفر
کرنا، کو قطع کرنا، ــ عن: کے متعلق پوچھنا، دریافت
کرنا، سے ملاقات چاہنا، کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کی
تفتیش کرنا، کا پوری طرح مشاہدہ کرنا، کا گہرا مطالعہ
کرنا، پر خوب غور کرنا، کی چھان بین کرنا، تحقیقات
کرنا۔ نَقِب ــ نَقَبًا: سوراخوں سے پر ہونا، چھیدا
جانا، میں چھید ڈالا جانا۔ نَقَّبَ عن: (تیل کے
لئے) برمے سے سوراخ کرنا، کا بغور مشاہدہ کرنا،
مطالعہ کرنا، کی تفتیش کرنا، کی چھان بین کرنا، تحقیقات
کرنا، کی تہ کو پہنچنا، کا جائزہ لینا، کو ڈھونڈنا، کی تلاش
کرنا۔ ــ فی: کے ایک سرے سے دوسرے حصہ تک
سفر کرنا، ــ ناقَبَ ہ: سے نیکیوں میں مقابلہ کرنا۔ ــ
تَنَقَّبَ عن: کا بغور مشاہدہ کرنا، مطالعہ کرنا، کی تفتیش
کرنا، کی تلاش کرنا، کو ڈھونڈنا، ــ: عورت کا چہرے پر
نقاب ڈالنا، ــ: سوراخوں سے پورا ہونا، چھیدا جانا۔
اِنتَقَبَ: نقاب پہننا، چہرہ پر نقاب ڈالنا نَقب: کھودنا،
کھدائی، سوراخ ڈالنا، چھیدنا۔ ــ جمع أنقاب
ونِقاب: سوراخ، رخنہ، شگاف، درز، راستہ، منہ،
چھید، روزن، مشین سے کنواں کھودنا، برمانا سرنگ۔
نَقّاب: سوراخ کرنے کا آلہ، چھیدنے کی مشین، پیچ
کس۔ نِقاب جمع نُقُب و اَنقِبَۃ: چہرہ کا پردہ، نقاب،
کَشَفَ النِقاب عن: کو افشا کرنا، آشکارا کرنا، عیاں
کرنا، فاش کرنا، ظاہر کرنا، منکشف کرنا، نِقابۃ جمع
نِقابات: انجمن امداد باہمی Cooperative
Society، یونین (Union) ایسوسی ایشن
(Association)، انجمن پیشہ وران (Guild)
کارپوریشن (Corporation)، سنڈی کیٹ
(Syndicate) (شرکت اخبارات، تعاونی انجمن،
مقالہ رساں ادارہ، مجلس خصوصی) ٹریڈ یونین (انجمن
پیشہ وران) لیبر یونین (مزدوروں کی انجمن) نِقابۃُ
العُمّال: ٹریڈ یونین لیبر یونین۔ نِقابی: انجمن امداد
باہمی یا دکان امداد باہمی سے متعلق مزدور اشتراکی
تحریک سے متعلق، ہڑتالی اشتراکیت کا حامی
(Syndicalist) نِقابیۃ: فرانس کی اشتراکی مزدور
تحریک، ہڑتالی اشتراکیت (Syndicalism)
انجمن ہائے پیشہ وران کے اصولوں کی حمایت
(Trade Unionism) نقیب جمع نُقَباء: رہنما،
سربراہ، سردار، نمبردار، ڈائریکٹر، پرنسپل، چیف، انجمن،
پیشہ وران کا صدر (Chairman of Guild)
صدر (پریذیڈنٹ) سنڈیکیٹ کارکن Syndic
کارپوریشن کا وکیل ۔ (فوجی) کیپٹن۔ (بحری فوج
کا) لیفٹیننٹ، ترازو کی زبان۔ نقیبۃ جمع نَقائب:
روح، ذہن، ذہانت، سمجھ، عقل، فہم، فراست، دماغ،
طبعی مزاج، افتاد طبع، فطرت، مزاج، کردار۔ مَنقِب
ومِنقَب و مَنقَبَۃ جمع مَناقِب: پہاڑی پگڈنڈی،
گھاٹی، تنگ درہ، درہ۔ مَناقِب: نیکیاں، نمایاں
خصوصیتیں، اوصاف پرشکوہ کام، کارنامے، کارہائے
نمایاں، تنقیب جمع تنقیبات: (تیل کیلئے) زمین
میں سوراخ کرنا، کھدائی، تفتیش، بغور مشاہدہ، تحقیقات،
تلاش، گہرا مطالعہ، (علمی) تحقیق۔ مُنَقِّب: تحقیقات
کنندہ، محقق علمی تحقیق کرنے والا، عالم، غیر معروف
علاقے کی سیاحت کرنے والا النَقَب: (جنوبی
اسرائیل میں ریگستانی علاقہ)

نقت: نَقَتَ ــ نَقتًا العظمَ: ہڈی کا گودا یا مغز نکالنا۔

نقث: ا۔ نَقَثَ ــ نَقثًا العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ ــ
الشیءَ المدفونَ: دبی ہوئی چیز کو کھود کر نکالنا۔ ــ
الرجلُ فی الامر او السیر: کام یا چلنے میں جلدی
کرنا۔ ــ الحدیثَ: بات کو پیچیدہ کرنا، خلط ملط
کرنا۔ ــ فلانًا بالکلام: کو بات سے ایذا دینا۔ ــ
الارض بیدہ: زمین کو کدال سے اڑانا۔ ــ عن
الشیءِ: کو جلدی کرنا۔ نَقَّثَ الرجلُ: جلدی کرنا۔
تَنَقَّثَ ہ: کو مائل کرنا، مہربان بنانا۔ ــ ضیعتَہُ: اپنی
جائیداد کی دیکھ بھال کرنا۔ اِنتَقَثَ العظمَ: ہڈی کا
گودا نکالنا۔ ــ الشیءَ المدفون: دبی ہوئی چیز کو کھود
کر نکالنا۔ النَقث (مص) چغلی، نَقّاث: ہجو۔

۲۔ نَقثَلَ نَقثَلَۃً الشیخُ: بوڑھے آدمی کا چلنے میں مٹی
اڑانا۔

نقح: نَقَحَ ــ نَقحًا العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ ــ
الجذعَ: تنے کی گانٹھیں کاٹ کر صاف کرنا۔ ــ
الشیءَ: کو چھیلنا، ردی کو خالص سے جدا کرنا۔ نَقَّحَ
العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ ــ الجذعَ: تنے کی
گانٹھیں کاٹ کر صاف کرنا۔ ــ الشیءَ: کو چھیلنا، اور
ردی کو خالص سے جدا کرنا۔ ــ الکلام: کلام کی اصلاح
ودرستی کرنا۔ ــ السنون الرجلَ: سالوں کا مرد کو کمزور
کر دینا۔ اَنقَحَ الکلامَ: کلام کی اصلاح و درستی کرنا۔
ــ الرجلُ: تنگی پر تلوار کی زیبائش اتارنا۔ تَنَقَّحَ
شحمُہُ: کی چربی کم ہونا۔ اِنتَقَحَ العظمَ: ہڈی کا
گودا نکالنا۔ النُقح (مص) موسم گرما کا سفید بادل۔
النِقح: تجربہ کار عالم۔ النَقَح: خالص ریت۔
التنقیح (مص): معنی کی وضاحت کے ساتھ الفاظ کا
اختصار۔

○ نَقَحَ ـ نَقحًا ہ (درخت کو) تراشنا، چھانٹنا، قلم کرنا،
درخت کی شاخیں کاٹ ڈالنا، (چیز کو) کانٹ چھانٹ
کر درست کرنا، آراستہ کرنا، سجانا، سنوارنا، کترنا،
تراشنا، حذف کرنا، مختصر کرنا، کم کرنا، نَقَّحَ (ہ):
(مندرجہ بالا معانی کے علاوہ) (تحریر) پر نظر ثانی کرنا،

دوبارہ غور کرنا، تحقیقات یا تنقیح کرنا، (کتاب پر) تبصرہ یا تنقید کرنا، (تحریر کی) جانچ پڑتال کر کے اصلاح کرنا، تصحیح کرنا، (تحریر کو) احتیاط سے پڑھنا (اسلوب وغیرہ) کو بہتر بنانا، شائستہ بنانا، خالص بنانا، صاف بنانا۔ اَنْقَحَ ہ: کی جانچ پڑتال کرنا، تنقیح کرنا، تصحیح کرنا، کو جانچنا، کا جائزہ لینا، کا مطالعہ کرنا، کا دوبارہ بغور مشاہدہ کرنا، پر دوبارہ غور کرنا، پر نظر ثانی کرنا، میں ترمیم کرنا، کا اعادہ کرنا، کی تصحیح کرنا، اصلاح کرنا۔ تَنْقِیح: جانچ پڑتال، تنقیح، جائزہ تصحیح، اصلاح، جانچ، دوبارہ مشاہدہ یا غور، نظر ثانی تصحیح۔

نقخ: نَقَخَ ـُ نَقْخًا ہٗ: کو مارنا۔ دماغَہٗ: کا دماغ توڑ دینا۔ اِنْتَقَخَ المخَّ من العظمِ: ہڈی سے گودا نکالنا۔ النُقاخ: صاف ٹھنڈا پانی، نیند، عافیت، امن، نُقاخُ کلِ شیٔ: خالص چیز، کہا جاتا ہے۔ ھذا نُقَاخُ العربیۃ: یہ عربی کا لب لباب ہے، یہ خاص عربیت ہے۔

نقد: ۱۔ نَقَدَ ـُ نَقْدًا و تَنْقادًا الدراھمَ وغیرھا: درہم وغیرہ کو پرکھنا۔ ــــ الکلامَ: کلام کی خوبی اور برائی ظاہر کرنا۔ ــــ فلانًا و لفلانٍ الثمنَ: کو قیمت نقد ادا کرنا۔ ــــ ہٗ درھمًا: کو درہم دینا۔ نَقِدَ ـَ نَقَدًا الضرسُ او القرنُ: دانت یا سینگ کا ٹوٹنا یا کھایا ہوا ہونا، صفت نَقِدٌ۔ ــــ الحافرُ: کھر کا چھلنا۔ ــــ الجذعُ: تنہ کا کھوکھلا ہونا۔ نَاقَدَ مُناقَدَۃً ہٗ: سے کسی معاملہ میں بحث کرنا، جھگڑنا۔ اَنْقَدَ الشجرُ: درخت کا پتے لانا، پتوں والا ہونا۔ تَنَقَّدَ الدراھمَ وغیرھا: درہموں وغیرہ کو پرکھنا۔ تَنَاقَدَ الدراھمَ: درہموں کو پرکھنا، کھوٹے نکال دینا۔ اِنْتَقَدَ الدراھمَ: کھوٹے درہم الگ کرنا، درہم نقد وصول کرنا۔ ــــ ت الأَرَضۃُ الجذعَ: دیمک کا تنہ کو کھوکھلا کر دینا۔ ــــ الولدُ: لڑکے کا جوان ہونا۔ ــــ الشعرَ علی قائلہ: پر شعر کا عیب ظاہر کرنا۔ ــــ الکلامَ: کلام کی چھائیاں اور برائیاں ظاہر کرنا۔ النَاقِد جمع نَقَدَۃ و نُقّاد (فا)۔ النَقد (مص) جمع نُقُود: نقد قیمت، درہم، کہا جاتا ہے: درھمٌ نَقْدٌ: پورے وزن کا عمدہ درہم۔ النَقدان: سونا اور چاندی۔ نَقْدُ العروس: دلہن کا مہر، (عام زبان میں) النقد و النُقُد: کم گوشت والا، دیر سے جوان ہونے والا۔ النَقَد: کمینے لوگ۔ النقّاد: درہم وغیرہ پرکھنے والا۔ المُنْتَقَد: مصدر میمی، انتقاد کے معنی میں۔

۲۔ نَقَدَ ـُ نَقْدًا و تَنْقادًا الطائرُ الفخَّ او الحبَّ: پرندہ کا جال یا دانے پر چونچ مارنا۔ ــــ تہُ الحیۃُ: کو سانپ کا ڈسنا۔ ــــ الرجلُ الشیَٔ والی الشیٔ بنظرہ: کو چپکے چپکے دیکھنا یا تکنا۔ مِنْقَادُ الطائر جمع مَنَاقِید: پرندہ کی چونچ۔

۳۔ النَقَد جمع نِقَاد و نِقَادَۃ (ح): بھیڑوں کی ایک قسم جن کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ واحد نَقَدَۃ (مذکر و مونث دونوں کے لئے) ــــ من الصبیان: دیر سے جوان ہونے والا بچہ۔ ــــ والنُقُد: واحد نَقَدَۃ و نُقُدَۃ (ن): درخت کی ایک قسم۔ النَقّاد: چھوٹی قسم کی بھیڑوں کا چرواہا۔ اَنْقَد (ح): سیہی، کہا جاتا ہے: باتَ بلیلِ انقدَ: وہ نہیں سویا، کیونکہ سیہی تمام رات نہیں سوتی۔ الأَنْقَد (ح): کچھوا، (ح): سیہی۔ الإنْقِدان (ح): کچھوا۔

○ نَقَدَ ـُ نَقْدًا ہ: کو کوئی چیز نقد ادا کرنا۔ ــــ ہ: کو ٹھونگے مارنا، کی تنقیدی نظر سے پڑتال کرنا۔ ــــ علی ہ: پر کے لئے تنقید کرنا۔ نَاقَدَہ: سے باز پرس کرنا، کا محاسبہ کرنا، مواخذہ کرنا۔ أَنْقَدَہ ہ: کو کچھ ادا کرنا۔ إنْتَقَد ہ: پر تبصرہ کرنا، کی غلطیاں نکالنا، پر اعتراض کرنا، پر نکتہ چینی کرنا، کی عیب جوئی کرنا، پر یا کے خلاف احتجاج کرنا، کو غلط ثابت کرنا۔ ــــ علی: کی خامیوں اور کمزوریوں کی اصلیت بتانا، پر تنقید کرنا۔ ــــ: نقد ادائیگی وصول کرنا۔ نَقْد: تنقید نگاری، تبصرہ نگاری، تنقید، نکتہ چینی، حرف گیری، اعتراض، اعتراضات، نقد، جمع نقود: سکے، ریزگاری۔ نَقْدًا: نقد، بالنقد: نقد، ورق النَقْد: بینک نوٹ، نوٹ، زر کاغذی۔ حافِظَۃُ النقود: بٹوا۔ نَقْدِی: روپے پیسے کے متعلق، نظام زر کے متعلق، مالی، سکوں وغیرہ کا، سکو کاتی، نقد تضخم نقدی: افراط زر۔ جزاءٌ نقدیٌ: نقدی یا مالی جرمانہ۔ نَقْدِیۃ: نقد۔ نَقّاد: نقاد، تنقید نگار، تبصرہ نگار، جائزہ نگار۔ نَقّادۃ: نکتہ چین، حرف گیر، عیب چین، عیب جو یا خوردہ گیر، تنقید نگار، تبصرہ نگار، نکتہ چین، حرف گیر، خوردہ گیر۔ مَنْقَد: انگارہ دان۔ إنْتِقاد جمع انتقادات: اعتراض، احتجاج، تنقید، ڈانٹ، اظہار ناراضگی، ڈانٹ ڈپٹ، زجر و توبیخ، لعن طعن، تغلیط، جائزہ، تبصرہ، تنقیدی تحقیق، نَاقِد جمع نَاقِدون و نُقّاد و نَقَدَۃ: تبصرہ نگار، تنقید نگار۔ مُنْتَقِد: تبصرہ نگار، تنقید نگار۔ مُنْتَقَد: مستوجب الزام، برا، نامناسب، لائق ملامت، قابل اعتراض۔

نقذ: ۱۔ نَقَذَ ـُ نَقْذًا و نَقَّذَ و انْقَذَ فلانًا من کذا: کو سے نجات دلانا، خلاصی دلانا، چھٹکارا دلانا۔ نَقِذَ ـَ نَقَذًا: نجات پانا۔ تَنَقَّذَ و اِسْتَنْقَذَہٗ من کذا: کو سے خلاصی دلانا، نجات دلانا۔ النَقَذ (مص): سلامتی۔ نَقَذًا لکَ: تو سلامت رہے۔ (اس دعا کی اصل: نَقَذَکَ اللّٰہُ نَقَذًا ہے) النَقَذ (مص): چھڑایا ہوا، بچایا ہوا، نجات دلایا ہوا، کہا جاتا ہے۔ مالَہٗ شقذٌ ولا نَقَذٌ: اس کے پاس کچھ نہیں۔ النَقِیذ: دشمن سے چھڑایا ہوا۔ النَقِیذَۃ جمع نَقَائِذ: گھوڑا زرہ وغیرہ جسے دشمن سے چھڑایا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے: ھو نَقِیذَۃُ بؤس: وہ سختی سے بچایا گیا ہے۔

۲۔ الأُنْقُذ (ح): سیہی، خارپشت۔

○ نَقَذَ ـُ نَقْذًا ہ من: کو سے نجات لانا، بچانا، چھڑانا۔ نَقِذَ ـَ نَقَذًا: بچنا، چھڑایا جانا، نجات دلایا جانا، فرار ہونا۔ اَنْقَذَ ہ من: کو سے بچانا، خلاصی دلانا، بچانا، چھڑانا، نجات دلانا۔ ــــ ہ: کو بچانا، کو پھر پالینا، پھر حاصل کرنا، کو واپس لینا، اِسْتَنْقَذَ ہ من: بمعنی اَنْقَذَہ من۔ إنْقاذ: نجات، خلاصی، چھٹکارا، بچاؤ، رستگاری، مکتی، حفاظت، رہائی، بازیافت، دستگیری۔ اِسْتِنْقاذ: بمعنی إنقاذ، مُنْقِذ: نجات دہندہ، بچانے والا، چھٹکارا دلانے والا۔

نقر: ۱۔ نَقَرَ ـُ نَقْرًا ہٗ: کو مارنا۔ ــــ الشیَٔ: میں چونچ سے سوراخ کرنا۔ ــــ الطائرُ البیضۃَ عن الفرخ: پرندہ کا بچہ نکالنے کے لئے انڈے میں سوراخ کرنا۔ ــــ الطائرُ الحبَّ: پرندہ کا دانہ چگنا۔ ــــ الحجرَ او الخشبَ: پتھر یا لکڑی کھودنا۔ ــــ ت الخیلُ بحوافرھا: گھوڑے کا اپنے کھروں سے کھودنا۔ ــــ السھمُ الھدفَ: تیر کا نشانہ پر لگنا مگر پار نہ ہونا۔ کہا جاتا ہے رَمَی الرامی الغرضَ فنقرہٗ: تیر پھینکنے والے نے نشانہ پر تیر لگایا۔ ــــ العودَ والدفَّ: بانسری یا ڈھول بجانا۔ ــــ فی الحجرِ: پتھر پر لکھنا۔ ــــ فی الناقور: بگل بجانا۔ ــــ فلانٌ: چٹکی بجانا، زبان کو تالو سے لگا کر آواز نکالنا۔ ــــ عن الامر: معاملہ کی چھان بین کرنا۔ ــــ فلانًا: پر عیب لگانا، نقرتُ بالرجلِ: میں نے مرد کو لوگوں میں سے بلایا۔ ــــ نَقِرَ ـَ نَقَرًا علی فلان: پر غضبناک ہونا۔ ــــ الشاۃُ: بکری کا نقرہ کی بیماری والا ہونا۔ ــــ فلانٌ: فقیر ہونا۔ نَقَّرَ الطائرُ فی الموضع: پرندہ کا جگہ کو انڈا دینے کے لئے نرم کرنا۔ ــــ الطائرُ الحبَّ: پرندوں کا دانہ چگنا۔ (تشدید: مبالغہ کیلئے ہے)۔ ــــ الشیَٔ و عن الشیٔ: کی چھان بین کرنا۔ ــــ علی فلان: پر نکتہ چینی کرنا اور عیب گیری کرنا۔ ــــ فلانٌ باسمِ فلان: لوگوں میں سے کسی کا نام لے کر پکارنا۔ نَاقَرَ مُنَاقَرَۃً و نِقارًا ہٗ: سے بات چیت میں جھگڑنا، مخالفت کرنا۔ کہا جاتا ہے: بینھم مُناقَرَۃ: ان کے درمیان جھگڑا

ہے۔اسی سے ہے: مناقرۃ الدیوك: مرغوں کی
لڑائی۔ انقر الرجُلَ: زبان کے کنارے سے نون
کی آواز نکالنا۔چٹکی بجانا۔ تنقّر الشيءَ: کی چھان
بین کرنا۔۔ علی الاھل او المال: بددعا کرنا اور کہنا
اللہ تم سے مجھے آرام دے اور تمہارا مال لیجائے۔
انتقرت الخیلُ بحوافِرھا نقرًا: گھوڑے کا
کھروں سے کھودنا۔۔ت السیولُ نُقَرًا: سیلاب کا
گڑھے ڈالنا جن پر پانی رکا رہے۔ الشيءَ: کو لکھنا، کی
چھان بین کرنا۔۔ ہُ: کو پسند کرنا۔۔ ہُ و انتقربه: کو
قوم میں سے علیحدہ بلانا۔۔ القومَ و بالقوم: قوم
میں سے خاص خاص لوگوں کو بلانا۔ الناقِر (فا) جمع
نَوَاقِر نشانہ پر لگنے والا تیر۔ الناقِرۃ جمع نوَاقِر: ناقر
کا مونث: مصیبت، ٹھیک دلیل، کہا جاتا ہے: اتتنی
عنه نوَاقِرُ: اس کی طرف سے مجھے ایذا دینے والی
باتیں پہنچیں۔ اخطأتُ نوَاقِرُہُ: وہ حق پر نہ رہا،
بینھم ناقِرۃ: ان کے درمیان مخاصمت ہے۔ الناقور
جمع نوَاقِیر: بانسری، بگل، ول، النِقر: کھجور کی گٹھلی
کا چھوٹا سا گڑھا۔ سوراخ النقر (مص): چٹکی کی
آواز، پتھر کی تحریر (لکھائی) النَقِر: غضبناک، ناراض،
(ھو نَقِر علیك: وہ تم سے ناراض ہے)، نقرہ کی
بیماری میں مبتلا۔ مالہ بموضع کذا نَقْر: اس کا
فلاں جگہ پانی یا کنواں نہیں ہے۔ النَقَر (مص) (کہا
جاتا ہے: اعوذ باللہ من العَقَرِ و النَقَر: میں اللہ
تعالیٰ کے ذریعے لنجے پن اور مال کے ضائع ہونے
سے پناہ مانگتا ہوں۔ النقرَۃ: نقرہ کا اسم مرہ: کہا جاتا
ہے: مااثابه نقرَۃ: اس نے اس کو کچھ بھی بدلہ نہیں
دیا۔ مااغنی عَنّی نقرَۃً: مجھے کچھ ذرا بھی فائدہ نہیں
ہوا (صرف نفی میں استعمال ہوتا ہے) النقرَۃ جمع
نُقَر و نِقار: زمین میں چھوٹا سا گول گڑھا۔ چاندی
سونے کا پگھلا ہوا ٹکڑا، آنکھ کا گڑھا، کولہے کے وسط کا
گڑھا، سرین کا گڑھا، گردن کے پچھلے حصہ کا گڑھا،
پرندہ کا بیضہ دان، گٹھلی کی پشت کا نشان یا داغ۔
النَقَرۃ: جھگڑا، کہا جاتا ہے: بینھم نِقرَۃ: ان کے
مابین جھگڑا ہے۔ النِقرَۃ: نیچے اترتی ہوئی پشت
زمین۔ نَقِر کا مونث۔ النُقرَۃ: بکریوں اور گایوں کی
ٹانگوں میں پیدا ہونے والی بیماری۔ النقارَۃ: چونچ
بھر، پتھر پر لکھنے سے جو باقی رہے، کہا جاتا ہے:
ماترك عندی نقارَۃً الا إنتقرھا: اس نے میرے
پاس ہر چیز کو لکھ لیا۔ النَقَری: عیب، کہا جاتا ہے:
دعوتھم النقری: میں نے انہیں خاص دعوت دی،
میں نے انہیں خصوصیت سے بلایا، اس کے مقابل عام

دعوت کو الجَفَلی کہا جاتا ہے: بَنَاتُ النَقَری: وہ
عورتیں جو گزرنے والوں پر عیب لگاتی ہیں۔ ذلیل
عورتیں۔ النَقّار: مبالغہ کا صیغہ، لکڑی یا پتھر پر کھدائی
کرنے والا، لگام یا رکاب پر نقش و نگار کرنے والا (اس
پیشہ کو نقارہ کہتے ہیں) امور اور خبروں کی چھان بین
کرنے والا (ح) چونچ مارنے والا پرندہ۔
النَقّارۃ: نقّار کا مونث۔۔ ج نقّارات: بڑا ڈھول،
بعض لوگ اسے نقّیرہ کہتے ہیں۔ النَقِیر جمع انقِرۃ:
کھجور کی گٹھلی کا گڑھا، پتھر اور لکڑی جس پر کھدائی کی
گئی ہو۔ کھجور کا تنہ جس کو کھوکھلا کر کے سیڑھیاں یا کٹہرا
بناتے ہیں، لکڑی کی جڑ جس کو کھود کر اس میں نبیذ
بناتے ہیں۔ مرد کی اصل، (کہا جاتا ہے فلانٌ کریمُ
النقیر: فلاں شخص خاندانی ہے) آواز، بہت غریب
(ح): ایک سیاہ رنگ کی مکھی۔ النَقیرَۃ: چھوٹی کشتی۔
الانقُور: کھجور کی گٹھلی کا گڑھا۔ التَنقِیر (مص):
سیٹی کے مشابہ آواز۔ المِنقَر جمع مَنَاقِر: کدال۔
چھنی۔۔ ج مناقِیر: لکڑی کا پیالہ، تنگ منہ کا چھوٹا
کنواں یا بہت پانی والا گہرا کنواں، حوض۔ المُنقُر جمع
مَنَاقِیر: لکڑی کا پیالہ، تنگ منہ کا چھوٹا کنواں یا بہت
پانی والا گہرا کنواں، حوض۔ المُنقُر: بہت ترش دودھ۔
المِنقَار: کدال، چونچ، چرمی موزے کی نوک۔ مِنقار
الدجاجۃ (فلك): ایک ستارہ۔ مِنقارُ الغراب (ع
ا) کندھے کی ہڈی جسے الاخرم بھی کہتے ہیں (فلك):
ایک ستارہ کہا جاتا ہے: ھو مُنقَر العین و مُنتَقِرُھا:
وہ دھنسی ہوئی آنکھ والا ہے۔

٢۔ أنقَرَ عنه: سے رکنا، کہا جاتا ہے: ضَرَبَہُ فما
أنقَرَ عنه حتی قتله: وہ اسے مارنے سے نہ رکا یہاں
تک کہ اسے قتل کر دیا۔

٣۔ نَقرَدَ نقرَدَۃً فی المکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا،
کہا جاتا ہے: مالك مُنقَرِدًا: کیا وجہ ہے تم مقیم ہو۔

٤۔ النِقرِس جمع نَقَارِس: (طب) نقرس کی بیماری
ہلاکت، بڑی مصیبت، ماہر رہنما، طبیب حاذق، گلاب
کے پھول جیسی چیز جس کو عورتیں سر میں رکھتی ہیں
النِقرِیس: ماہر رہنما، طبیب حاذق۔

○ نَقَرَ۔ نُقرًا ہ: کو کھودنا، میں سوراخ کرنا، میں گڑھا
بنانا، کو کاٹنا، میں کندہ کاری کرنا، منبت کاری کرنا۔۔
فی: میں کندہ کرنا، کھودنا، نقش کرنا، پر لکھنا۔۔ ہ: دانہ
چگنا۔۔ ہ: کو ٹھونگے مارنا، کو گھونسا لگانا، کے سر پر ضرب
سے چکرا دینا، کو آہستہ سے مارنا۔۔ ہ: ڈھول بجانا۔
۔ ہ: کی توہین کرنا، کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کو تنگ کرنا، کو
بدنام [illegible] بدگوئی کرنا، ماز [illegible] عرفی

کرنا، پر تہمتیں دھرنا، بہتان باندھنا، کو خواہ مخواہ بدنام
کرنا، کو ملامت کرنا، پر در پردہ الزامات لگانا۔۔
عن: کی تفتیش کرنا، کی پڑتال کرنا۔ نَقِرَ۔ نَقَرًا
علی: سے خفا ہونا، سے ناراض ہونا، دلگیر ہونا۔ نَقَّر
ہ: کو ٹھونگیں مارنا۔۔ عن: کی تفتیش کرنا، کی پڑتال
کرنا، نَاقَرَہ: کے ساتھ بحث کرنا، جھگڑنا، تو تو میں میں
کرنا، سے معمولی معمولی باتوں پر الجھنا۔ نَقْر: کھدائی،
کھود کر بنانا، کھوکھلا کر کے بنانا۔ نقش و نگار کھودنا، منبت
کاری کرنا، تراشنا، کاٹ کر نقش بنانا، مورت بنانا،
کھودنا، کندہ کرنا، قلم کاری کرنا، نقاشی کرنا، کھوکھلا پن،
کھوہ، بڑا سوراخ، خلا، جوف، گڑھا، انگلیاں چٹخنا،
چٹکی بجانا۔ نَقِر: ناراض، دلگیر، جذبات کو ٹھیس لگا ہوا،
خفا۔ نَقرَۃ جمع نَقَرات: چوٹ، ضرب، گھونسا، مکا،
دھماکا، ذرہ بھر، ذرہ، پرکاہ، نقارے کی چوٹ، تھاپ،
نِقرَۃ: جھگڑا، بحث، معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا، تو تو
میں میں۔ نَقّار: کندہ کار۔ نَقّار الخشب: کٹھ
پھوڑا (ایک پرندہ) نُقّارِیۃ جمع نُقّاریات: انگلیوں
سے بجانے والا باجا جو ڈھول سے مشابہ ہوتا ہے۔
نَقِیر: کھجور کی گٹھلی کے گڑھے میں ایک چھوٹا سا داغ،
بالکل بے کار چیز۔ لایجدی شَرْوَی نقیر: یہ ذرا
بھی مدد نہیں کریگا، یہ تمہیں کہیں نہیں لے جائیگا، لا
یملك شَرْوَی نقیر: اس کے پاس بالکل کچھ نہیں۔
لافتیل ولانقیر: بالکل ہی کچھ نہیں۔ نَقِیرۃ جمع
نَقَائِر: بادبانی جنگی جہاز، نَقّارَۃ: نقّارہ۔ نَاقُور جمع
نَوَاقیر: بگل۔ نَقُورَۃ: بچوں کی سی باتیں، بے کار
باتیں، مِنقَار جمع مَنَاقیر: چونچ، کدال، مُنَاقَرَۃ:
نوک جھونک، جھگڑا، ٹنٹا، حجت، تکرار۔ نَاقِرَۃ جمع
نَوَاقِر: نوک جھونک، جھگڑا، ٹنٹا۔ حجت، استدلال،
مصیبت۔ نقرزان: چھوٹا ڈھول، طبل نواز، ڈھولچی،
نقارچی نِقرِس: گنٹھیا، ماہر و حاذق حکیم (طبیب)
نِقرِیس: ماہر و حاذق حکیم (طبیب)۔

نقز: ١۔ نَقَزَ۔ نُقزًا و نَقَزَانًا و نِقازًا الظبیُ: ہرن کا
کودنا، چھلانگ مارنا، صفت نَاقِز۔۔ ہُ عنھم: کو
لوگوں سے دفع کرنا، ہٹانا۔ نَقّزتِ الصبیَّ اُمُّہُ: ماں
کا بچہ کو اچھالنا۔۔ فلانًا: کو کودانا۔ انقَزَ عدوَّہُ: کو فوراً
قتل کر دینا۔۔ الرجُلُ: نقاز بیماری والے مویشی والا
ہونا۔ انتَقَزَتِ الشاۃُ: بکری کا نقاز کی بیماری والا
ہونا۔ النَاقِزَۃ جمع نوَاقِز: ناقز کا مونث۔ نوَاقِزُ
الدابّۃ: چوپایہ کی ٹانگیں۔ النُقَاز: طاعون کی طرح کی
جانوروں کی ایک بیماری۔ النَقّاز و النُقّاز جمع نقاقیز
(ح): ایک پرندہ، چڑیوں کے بچے۔ المَنقُوزُ مَنقُوزَۃ:

نقاز بیماری میں مبتلا۔
۲۔ أَنْقَزَ الرجُلُ: ردی مال حاصل کرنا، جمع کرنا۔ اِنْتَقَزَ فلانٌ لفلان من مالِه: کسی کا کسی کو ردی مال دینا۔ ــــ لفلان شرَّ الابل: کے لئے بدترین اونٹ پسند کرنا۔ عطاءٌ نَاقِزٌ و زونَاقِزٍ خسیس (ردی) عطاء۔ النِقْز: خسیس مال۔ گھٹیالوگ۔ النِقَز: واحد نِقَزَة: گھٹیامال، زذیل طبقہ کے لوگ
۳۔ أَنْقَزَ الرجُلُ: ہمیشہ صاف اور میٹھا پانی پینا۔ النُقْز: کنواں۔ النِقَز: صاف اور میٹھا پانی۔
۴۔ أَنْقَزَ عن الشئِ: سے رکنا، باز رہنا۔
۵۔ النِقْز و النِقَز: لقب۔
○ نَقَزَة: چھلانگ، جست، بدکنا، بھڑکنا۔

نقس: ۱۔ نَقَسَ ـُ نَقْسًا الناقُوسَ بالخشبة لکڑی سے ناقوس بجانا۔ ــــ الناقوسَ: ناقوس بجنا۔ نَقَّسَ القومَ بناقوسه: ناقوس بجاکر لوگوں کو بلانا۔ اِنْتَقَسَ: ناقوس بجانا۔ النِقْس جمع نُقُس: ناقوس کی ایک قسم۔ الناقُوس جمع نَوَاقِيس: لوہے کا ٹکڑا جو لکڑی سے بجایا جاتا ہے۔ گھڑیال
۲۔ نَقَسَ ـُ نُقُوسًا بين القوم: قوم میں فساد ڈالنا۔ ــ الشرابُ: شراب کا ترش ہونا۔ نَقِسَ ـَ نَقَسًا هُ: پر عیب لگانا، سے مسخری کرنا۔ نَقَّسَ فلانًا: کو لقب دینا۔ ــ الدواةَ: دوات میں روشنائی ڈالنا۔ نَاقَسَ هُ: پر عیب لگانا، کہاجاتا ہے: بينهما مُنَاقَسَةٌ ومُنَاقَسَة: دونوں کے درمیان مقابلہ اور حرف گیری ہے۔ النَاقِس (فا): ترش، کہاجاتا ہے لبنٌ نَاقِسٌ وشراب ناقس: ترش دودھ اور شراب۔ النَقَس جمع نُقَس: کھجلی، خارش، النِقْس جمع أَنْقَاس وأَنْقُس: روشنائی، رجُلٌ نِقْسٌ: عیب گیر، لوگوں کے لقب رکھنے والا۔ النِقَاسَة: لقب دینا۔ الأَنْقَس: کھجلی والا، کنیز زادہ۔
۳۔ النُقُوس (ن) ایک قسم کی نبات۔
○ نَاقُوس جمع نَوَاقِيس: گھنٹی، گھنٹہ، جرس، ہاتھ کی گھنٹی، گھنٹی کی جھنکار۔

نَقَش: نَقَشَ ـُ نَقْشًا الشئَ: پر بیل بوٹے ڈالنا، نقش ونگار کرنا۔ ــ العِذقَ: کھجور کے خوشہ کو پکانے کیلئے کانٹوں سے مارنا۔ ــ فصَّ الخاتم: انگوٹھی کے نگینہ پر نقش کرنا۔ ــ الرحىٰ: چکی ٹانچنا، کے دندانے بنانا۔ ــ الشوكة من رِجْلِهِ: پاؤں سے کانٹا نکالنا۔ ــ مربضَ الغنمِ: بکریوں کے باڑے کو پتھروں اور کانٹوں وغیرہ سے صاف کرنا۔ ــــ عن الشئِ: کی بہت وضاحت کرنا۔ الشَعَر بالمِنْقَاش: موچنے سے بال نوچنا۔ کہاجاتا ہے: مانَقَشَ منه شيئًا: اس نے اس سے کچھ نہیں پایا۔ نَقَّشَ الشئَ: پر نقش و نگار کرنا۔ نَاقَشَهُ الحسابَ و في الحساب: سختی سے حساب کی تفصیل لینا۔ ــــ فلانًا: سے بحث کرنا، جھگڑنا۔ ــ قضيَّةً رِيَاضِيَّةً: مختلف حسابی حالات پر غور کرنا۔ أَنْقَشَ: ہمیشہ خشک کھجور کھانا جس کو توشہ میں رکھ کر اس میں پانی ڈالا جاتا ہو۔ ــــ على غريمه: مقروض سے پورا وصول کرلینا۔ تَنَقَّشَ جميع حقِّهِ من فلان: سے اپنا پورا حق لینا۔ اِنْتَقَشَ فلانٌ: نقش نگار کرنے والے کو نگینہ پر کندہ کرنے کا حکم دینا۔ ــــ على فصِّهِ كذا: نگینہ پر کوئی چیز کھدوانا۔ ــــ الشوكةَ: پاؤں سے کانٹا نکالنا، کبھی انتقاش سے سزا اور گناہوں کے تدارک کا استعارہ کیا جاتا ہے۔ ــــ الشئَ: کو نکالنا۔ ــ من زيد جميع حقِّهِ: (زید سے) اپنا تمام حق لے لینا۔ ــــ فلانًا: کو پسند کرنا، کہا جاتا ہے: إِنْتَقَشْتُكَ لكذا: میں نے تمہیں فلاں کام وغیرہ کیلئے پسند کیا۔ انتقش لنفسه خادمًا او غيره: اپنے لئے نوکر وغیرہ پسند کرنا یعنی نوکر وغیرہ لینا۔ النَقْش (مص): سوکھی کھجور جس کو توشہ میں رکھ کر پانی میں تر کیا جائے۔ ــــ وجمع نُقُوش: زمین میں نشان، نقش ونگار۔ النِقَاشَة: نقاشی کا پیشہ۔ النَقَّاش: نقش ونگار کرنے والا۔ النَقِيش: برتن میں رکھی ہوئی مختلف چیزیں۔ نظیر کہاجاتا ہے مَالَهُ نَقِيش: وہ بے نظیر ہے۔ المِنْقَش و المِنْقَاش جمع مَنَاقِش و مَنَاقِيش: موچنا، نقش ونگار کرنے کا برش، پنسل، چھینی، کانٹے نکالنے کا اوزار، کہاجاتا ہے: استخرجت منه حقي بالمناقيش: میں نے اس سے اپنا حق وصول کرنے میں بہت تکلیف اٹھائی یا تھک گیا۔ المَنَاقِيش: واحد مَنْقُوشَة: کیک، سموسہ، پیسٹری۔ المَنْقُوش: دینار، کچی کھجور جس کو پکانے کیلئے اس میں کانٹا چبھوئیں۔ الشجَّة المُنَقِّشَة والمَنْقُوشَة: زخم جس سے ہڈیاں نکالی جائیں۔
○ نَقَش ـُ نَقْشًا هُ کو مختلف رنگوں سے بوقلموں بنانا، میں مختلف رنگوں کے ٹکڑے لگانا، کو رنگ برنگا کرنا، پر مختلف رنگ تھوپنا، کو رنگنا، پر رنگ چڑھنا۔ ــــ هُ: پر نقاشی کرنا، کو نقش ونگار سے آراستہ کرنا، کو چھینی سے توڑنا، سے مجسمے بنانا، پر نقش ونگار کھودنا، منبت کاری کرنا۔ ــــ على هُ: پر کچھ کھودنا کچھ کندہ کرنا، قلم کاری کرنا، نقاشی کرنا۔ نَقَّش نقاشی کرنا، نقش ونگاری سے آراستہ کرنا، کندہ کرنا، قلم کاری کرنا، مجسمے بنانا۔ نَاقَش هُ: سے بحث کرنا، جھگڑا کرنا۔ ــــ هُ پر بحث کرنا، مباحثہ کرنا، پر تبصرہ کرنا، تنقید کرنا، اعتراض کرنا، کے خلاف احتجاج کرنا۔ ــــ هُ: کو سننا، سے پوچھ گچھ کرنا، کی تفتیش کرنا۔ تَنَاقَش في: کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا، جھگڑنا۔ اِنْتَقَش هُ: کانٹا وغیرہ نکالنا۔ نَقْش جمع نُقُوش: رنگین تصویر، نقش رنگین، تصویر، خاکہ، کندہ تصویر کا نقش، نقش کندہ، نقش، کتبہ، سنگ تراشی، مجسمہ سازی، مجسمہ، شکل نقشہ۔ نَقَّاش: رنگ ساز، مصور، فنکار، سنگتراش، مجسمہ ساز۔ مِنْقَش جمع مَنَاقِش: چھینی، مِنْقَاش جمع مَنَاقِيش: چھینی، نِقَاش و مناقشہ: بحث، مباحثہ۔ مُنَاقَشَة: قیل وقال، نزاع، جھگڑا، تکرار، گرماگرمی۔ مَنْقُوش: رنگین، مثلاً، بوقلموں، رنگین (تصویر)، روغن شدہ، کندہ کیا ہوا، کھودا ہوا، نقش کیا ہوا، مجسمہ بنایا ہوا، لکھا ہوا، مُنَاقِش: کسی جھگڑے وغیرہ میں مخالف یا حریف، شریک نزاع، جھگڑے میں حصہ لینے والا۔

نقص: ۱۔ نَقَصَ ـُ نَقْصًا ونُقْصَانًا و تنقاصا ونُقْصَانًا الشئُ: کم ہونا، گھٹنا۔ ــــ تُ الشئَ: میں نے چیز کو گھٹا دیا، کم کردیا۔ ــ ت زيدًا حَقَّهُ: میں نے زید کو اس کا حق کم کرکے دیا۔ نَقَّصَ وأَنْقَصَ الشئَ: کو کم کرنا، گھٹانا، ناقص کرنا۔ تَنَقَّصَ فلانًا: کی مذمت کرنا، عیب جوئی کرنا۔ ــــ الشئَ: سے تھوڑا سا لینا یا تھوڑا تھوڑا لینا۔ تَنَاقَصَ الشئُ: آہستہ آہستہ کم ہونا یا گھٹنا۔ اِنْتَقَصَ الشئُ: کم ہونا، گھٹنا۔ ــ الشئَ: کو گھٹانا، کم کرنا۔ تُهُ حَقَّهُ: میں نے اسے اس کا حق کم کرکے دیا۔ ــــ الرجُلَ: کی عیب گیری کرنا۔ اِسْتَنْقَصَ الثمنَ: قیمت گھٹانے کے لئے کہنا، کو تھوڑا پانا۔ ــ الرجُلَ: کی طرف نقصان کی نسبت کرنا۔ النَاقِص جمع نُقَّص فا: درهمٌ نَاقِصٌ: کم وزن کا درہم۔ النَقْص (مص) کمی نقصان، لیکن نقصان دین اور عقل میں مستعمل نہیں، کہاجاتا ہے: دخل عليه نقص في دينه و عقله: اس کے دین اور عقل میں کمی ہوگئی، یہاں نقصان نہیں کہاجائیگا۔ النُقْصَان (مص) کمی، گھٹاؤ: کہاجاتا ہے: نقصانه كذا و كذا: اس میں یہ یہ کمی ہے۔ النَقِيصَة جمع نَقَائِص: کمی، خامی، کمزوری، غلطی، خطا، قصور، عیب، برائی، خرابی، نقص، کوتاہی، کمینہ خصلت المَنْقَصَة جمع مَنَاقِص: نقصان۔ المناقصة في اصطلاح اصحاب الاعمال: کم سے کم دام کی بولی دینے والے کے تعین کیلئے مقابلہ، عوام کو دعوت کہ وہ تعمیرات عامہ کے لئے دام (یا بولی) پیش کریں، بولی دینے والوں کے لئے اطلاع، کم سے کم دام کی بولی دینے والے کو ٹھیکہ دینا، اس کے مقابل کو المَزَايَدَة کہتے ہیں۔ یعنی نیلامی یا نیلام عام۔

۲۔ نَقَصَ ۔ نُقَاصَةً الماءُ: پانی کا میٹھا ہونا۔ النَقِیص: میٹھا پانی، ہر خوشبودار چیز۔

نَقَصَ ہ/ ہ: کے خلاف دل پھیرنا، دل میں کے خلاف تعصب پیدا کرنا، کے مفاد کے خلاف ہونا، کو گھٹانا، کر کرا کر دینا۔ نَقَصَ: ناقص یا ناتمام ہونا، ناکافی ہونا، عیب دار، کھوٹا، ادھورا یا غیر مکمل ہونا، ناکارہ، خراب یا نکما ہونا، کچا یا خام ہونا۔ نَقَصَهُ الشئُ: اسے چیز کی حاجت ہوئی، درکار ہوئی، ضرورت ہوئی، وہ چیز جس کا ضرورت مند ہوا۔ ـــ عن ضرورت سے کم ہونا یا کم پڑنا سے کم ہونا، تھوڑا یا ناکافی ہونا۔ عامًا تنقص شهرا واحدا: ایک ماہ کم تیرہ سال۔ نَقَّصَ و أنقَصَ ہ: کو کم کرنا، گھٹانا، کوتاہ کرنا، ہلکا کرنا، کو پابند کرنا، جکڑنا، میں تخفیف کرنا، کو چھوٹا کرنا، مختصر کرنا، کاٹنا۔ ناقَصَ ہ: منصوبے وغیرہ کے لئے بولی (دام) طلب کرنا۔ تَنَاقَصَ: بتدریج کم ہونا، آہستہ آہستہ گھٹنا، رفتہ رفتہ کم یا چھوٹا ہو جانا۔ اِنتَقَصَ من قدرہ: کی تحقیر کرنا، کو گھٹا کر دکھانا، کو بدنام کرنا، کو نگاہوں سے گرانا، کو ذلیل کرنا، کو کر کرا کر دینا۔ اِستَنقَصَ ہ: کو کم کرنے کیلئے کہنا، کو کم، ناقص، ناتمام، نکما، خراب، ادھورا، نامکمل یا گھٹیا پانا، کی عدم موجودگی معلوم کرنا، کی کمی بری طرح محسوس کرنا۔ نَقْصٌ فی: کی کمی، قلت، کمیابی۔ نَقْص: کمی، گھاٹا، خسارہ، ٹوٹا، نقصان، کھونا، ضرر، صدمہ، خلا، وقفہ، خالی جگہ (عبارت میں) فروگزاشت، عیب، خرابی، نقص کمزوری، خامی، ادھورا پن، ناتمامی، کمتری، کہتری۔ نَقْصُ االموالید: شرح پیدائش کی کمی۔ مُرَکَّبُ نقص: احساس کمتری، احساس کہتری۔ ناقِصٌ جمع نُقَّص: کم، گھٹیا، غلط، نکما، خراب، ناقص، نامکمل، ناکافی بہم رسانی، ناکافی رسد، کمیاب۔ ـــ عن: سے کم۔ منقوص: خام، ادھورا، ناقص، ناتمام، نامکمل، ناکافی۔

نقض: ا۔ نَقَضَ ـــ نَقْضًا البناءَ: عمارت کو ڈھانا۔ ـــ الحبلَ: رسی کھولنا۔ ـــ العهدَ او الامرَ: عہد یا معاملہ کو پختگی کے بعد خراب کرنا عہد توڑ دینا کہا جاتا ہے: نَقَضَ فلانٌ وِترَهُ: فلاں شخص نے اپنا انتقام لے لیا۔ نَقَضَ الارضَ: زمین کی مٹی کو جدا جدا کرنا۔ ـــ الکمءُ: پھٹی ہوئی کھمبی کا چھلکا اترنا۔ ناقَضَ مُناقَضَةً و نِقَاضًا قولهُ الثانی قولَهُ الاوّلَ: کا دوسرا قول پہلے قول کے مخالف ہونا۔ انقَضَ الکمءُ: بمعنی نقضَ الکمءُ، الحَملُ الظَهرَ: بوجھ کا پیٹھ کو بوجھل کرنا۔ ـــ الکماةَ و عن الکماةِ: سانپ کی چھتری کو زمین سے نکالنا۔ تَنَقَّضَ الحبلُ: رسی کا بل کھل جانا۔ ـ الدمُ: خون کا ٹپکنا۔ ـ الجرحُ: زخم سے خون بہنا۔ ـــ ت الارضُ عن الکماة: زمین کا پھٹ کر سانپ کی چھتری نکالنا۔ تَنَاقَضَ البناءُ او الحبلُ: عمارت کا تڑخنا۔ رسی کا کھلنا۔ ـــ القولانِ: دو قولوں کا ایک دوسرے کے مخالف ہونا۔ تناقضا البیعَ: دو کا بیع کو آپس میں توڑنا۔ اِنتَقَضَ البناءُ او الحبلُ: عمارت کا تڑخنا، رسی کا کھلنا۔ ـــ الجرحُ بعدبرئه: زخم کا اچھا ہونے کے بعد خراب ہو جانا۔ ـــ الامرُ بعد اِلتِئامِهِ: معاملہ کا سدھرنے کے بعد بگڑ جانا۔ ـــ ت الطهارةُ: طہارت کا باطل ہونا، نہ رہنا، کہا جاتا ہے: اِنتَقَضَ علیه البلدُ: اہل شہر اس کی اطاعت سے نکل گئے، باغی ہو گئے۔ النَقض (مصدر): مُفَاعَلَتُن کے ساتویں حرف کو حذف کر کے پانچویں کو ساکن کرنا یعنی نون حذف اور لام کو ساکن کرنا، اس طرح وہ مفاعیل ہو جائے گا۔ النِقَض: دوبارہ کاتا ہوا خیمہ یا کمبل۔ النِقْض جمع اَنقَاض و نُقُوض: عمارت کا ملبہ۔ دبلی اونٹنی یا اونٹ جو سفر کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوں۔ زمین کی پپڑی جو سانپ کی چھتری وغیرہ سے پھٹ جائے۔ دوبارہ کاتا ہوا خیمہ یا کمبل۔ النُقض جمع اَنقَاض و نُقُوض: عمارت کا ٹوٹا ہوا حصہ۔ النُقَض: ایک قسم کی کشتی، کشتی کا ایک پیچ۔ النَقْضَة: نقض کا اسم مرة۔ ـ عند النجّارین: شہتیر (جس سے چھت ڈالی جاتی ہے) النِقضَة جمع اَنقَاض: علیحدہ کیا ہوا جدا کیا ہوا، الگ الگ کیا ہوا، توڑا ہوا، چلنے کی وجہ سے کمزور جانور۔ ناقةٌ نقضة: کمزور اونٹنی۔ النُقَاضَة: بالوں کی رسی کی کھلی ہوئی لڑیاں۔ النَقِیض م نَقِیضَة: مخالف برعکس (فلانٌ هو نقیضُك: فلاں شخص تمہارا مخالف ہے یا تمہارے برعکس ہے) پہاڑی راستہ، ہر چیز کا رفع و عکس، جب ہم کہتے ہیں کہ کلُ انسان حیوان بالضرورہ: ہر انسان لازمی طور پر حیوان ہے۔ تو اس کا برعکس (الٹ) یہ ہے انه لیس کذلك: وہ ایسا نہیں ہے۔ النَقیضان: دو ایسی متضاد چیزیں جن کا اجتماع ناممکن ہو۔ النَقِیضَة جمع نَقَائِض: مناقضہ کا اسم، نمایاں فرق۔ ـــ فی الشعر: وہ نظم جو نظم کے جواب میں ہو۔ کہا جاتا ہے۔ هذه القصیدة نقیضةُ قصیدة فلان: یہ وہ نظم ہے جس کے ذریعہ فلاں کے نظم کا اثر باطل کیا گیا ہے۔ اسی سے جریر اور الفرزدق (دو شاعروں) کے نقائض ہیں۔ التَنَاقُض (ہ): باہم مخالفت تضاد کہا جاتا ہے۔ فی کلامه تناقض اس کی باتوں میں تضاد ہے۔

۲۔ نَقَضَ ـ نَقْضًا العظمَ: ہڈی کو توڑنا۔ ـ نَقْضًا المفصلُ والادیمُ و نحوهما: جوڑ، چمڑے وغیرہ کا چرچرانا۔ آواز کرنا۔ اَنقَضَ بالمعز: بکری کو بلانا، ـــ ت العقابُ: عقاب کا آواز نکالنا۔ ـــ اصابعَهُ: انگلیوں سے مار کر آواز نکالنا۔ تَنَقَّضَ البیتُ: گھر کا چٹخنا، چٹکنا۔ ـــ تْ عِظامُهُ: کی ہڈیوں سے آواز نکلنا۔ النقیض من الادم والرَحْل والوَتَر والاصابع والاضلاع والمفاصل وغیرها: چمڑے، کاٹھی، تانت، انگلیوں، پسلیوں اور جوڑوں وغیرہ کی آوازیں۔ چوزے، بچھو، مینڈک، عقاب اور شتر مرغ وغیرہ کی آواز، نقیض السقف: چھت کی لکڑی کی چرچراہٹ۔

نَقَضَ ـــ نَقْضًا ہ: کو برباد کرنا، گرانا، پھاڑ ڈالنا، کا الٹ کرنا، کا اثر باطل کرنا (عہد وغیرہ) توڑنا، کی خلاف ورزی کرنا، کی بے حرمتی کرنا، بے ادبی کرنا، کو منسوخ کرنا، کالعدم قرار دینا، ختم کرنا (شک وشبہ) کو کالعدم قرار دینا، غلط ثابت کرنا، کی تردید کرنا (سزا کے حکم کو) کالعدم قرار دینا، منسوخ کرنا، رخ بالکل بدل دینا۔ نقض الولاءَ: اطاعت، فرمانبرداری یا انقیاد سے دستبردار ہو جانا، (کو) چھوڑ دینا، (سے) بغاوت کرنا۔ لایُنقَضُ: ناقابل تردید، اٹل، ناقابل تنسیخ، نَاقَضَ ہ: کے موافق نہ ہونا، سے متضاد ہونا، کے برخلاف یا برعکس ہونا، کے علی الرغم ہونا، کے مقابل یا بالمقابل ہونا، کے الٹ ہونا، کی تردید کرنا، سے بے میل یا بے جوڑ ہونا، تَنَقَّضَ: برباد ہونا، منہدم ہونا، پھٹنا، تباہ ہونا، توڑا جانا، خلاف ورزی کیا جانا، کا الٹ کیا جانا، کا اثر باطل کیا جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ختم ہونا، زوال میں آنا، گرنا، برباد ہونا، غائب یا کافور ہو جانا نظروں سے اوجھل ہو جانا، خراب ہو جانا، گھس جانا، آہستہ آہستہ غائب ہو جانا، ختم ہو جانا، مر جانا، فنا ہو جانا۔ تَنَاقَضَ: ایک دوسرے کی تردید کرنا، کے الٹ یا برعکس ہونا، باہم کم آمیز ہونا، مخصوص ہونا۔ انتقض: برباد ہونا، منہدم ہونا، تباہ ہونا، توڑا جانا، خلاف ورزی کیا جانا، الٹ کیا جانا، کا اثر باطل کیا جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، خراب ہو جانا، آہستہ آہستہ غائب ہو جانا، ختم ہو جانا، مر جانا، فنا ہو جانا، ـ علی: کے خلاف بغاوت کرنا، پر حملہ کرنا، سے لڑائی شروع کرنا۔ نقضُ الحکم: سزا کے حکم کا الٹ کرنا، نَقضُ السلام: امن شکنی، نقضِ امن۔ محکمة النقض والاِبْرام: عدالت تنسیخ۔

لایجوز نقضهٗ: یہ (سزا کا حکم) ناقابل تنسیخ ہے، ناقابل تغیر ہے، نظرثانی کے ناقابل ہے۔ ضابطہ کیمطابق ہے۔ قطعی ہے، اس کے خلاف اپیل نہیں ہوسکتی۔ حقُّ النقض: ویٹو کرنے کا حق۔ انقاض (نقض کی جمع) ملبہ، ٹوٹے ہوئے، اینٹ پتھر، روڑے، کنکر۔ علٰی نقیض: کے خلاف، مخالف، سے متضاد، مختلف، علی النقیض: نہیں بلکہ، اس کے برعکس، إنتقل من النقیض إلی نقیضه: ایک انتہاء سے دوسری انتہاء تک جانا، انتہائی قدم اٹھانا۔ تناقض: باہمی تضاد، عکس، تباین، تخالف۔ انتقاض: انہدام، بغاوت۔ منقوض: تباہ شدہ، منہدم شدہ، ٹوٹا ہوا، خلاف ورزی کیا ہوا۔ الٹ کیا ہوا، اثر باطل کیا ہوا، منسوخ کیا ہوا، قابل تردید، غلط ثابت کرنے کے قابل۔ مُنَاقِض: متضاد، مخالف، عکس، الٹ، بے میل، بے جوڑ۔ مُنَاقِضُ ذاتَهٗ: اپنی ذات کی تردید کرنے والا، خود تردیدی۔ مُتَنَاقِض: باہم متضاد، باہم تردیدی، باہم دگر آویزاں، باہم الٹ، جمع متناقِضات: تخالفات، تباینات، تضادات، نمایاں فرق، تناقضات، مخالفتیں، عداوتیں، اختلافات۔

نقط: ۱۔ نَقَطَ ـــــ نُقطًا الحرفَ: حرف پر نقطے لگانا صفت۔ فاعلی نَقَّاط: صفت مفعولی۔ (یعنی حرف) مَنقُوط۔ نَقَّطَ الحرفَ: حرف پر نقطے لگانا۔ ـــــ ثوبَهٗ بالمدادِ او الزعفرانِ: کپڑے پر روشنائی یا زعفران کے نقطے لگانا، عام لوگ کہتے ہیں: نَقَطَ الاناءَ: برتن ٹپکا۔ نَقَطَ العروسَ: شادی پر دلہن کو تحفہ دینا۔ تَنَقَّطَ المکانُ: جگہ میں گھاس کے مختلف قطعے واقع ہونا۔ ـــ فلانٌ الخبرَ: آہستہ آہستہ خبر لینا۔ تنقّطتُ الخبزَ: میں نے آہستہ آہستہ یا تھوڑی تھوڑی کر کے روٹی کھائی۔ النقطة جمع نُقَط ونِقاط: نقطه: چھوٹی گیند جیسی علامت جو حروف پر اور ان کے نیچے لگائی جاتی ہے تاکہ ان کی تمیز کی جاسکے جیسے باء (ب) جیم (ج) خا (خ) اور کلام میں پہلی عبارت کو الگ کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے جس کو انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ ـــ فی الهندسة: نقطہ جس کی لمبائیاں نہ ہوں۔ کہا جاتا ہے۔ نِقَاطٌ اونُقَطٌ من الکلاء: گھاس کے متفرق قطعے۔ ما اختلفوا فی نُقطَةٍ: انہوں نے کسی معاملہ یا مسئلہ میں اختلاف نہیں کیا اور یہ موافقت پر زور دینے کیلئے کہا جاتا ہے۔ نقطة الدائرة: دائرہ کا مرکز۔ النقطة (ب): پتھر وغیرہ جو لیور (lever) کے سرے کے نیچے اس لئے رکھا جائے کہ جس چیز کو اٹھانا مقصود ہو اسے آسانی سے اٹھایا جاسکے۔ پانی یا خون کا قطرہ۔ داءُ النُّقطَةِ (طب): مرگی۔ النَّقطَة: نقط کا اسم مرة النُّقُوط: شادی میں دیئے جانے والے تحفے۔ المنقوط (مفع) ـــ من الشِعر: وہ شعر جس کے تمام حروف نقطے والے ہوں۔ کتاب مَنقُوط: اعراب لگی ہوئی کتاب۔

۲۔ نَقَطَ ـــ نُقطًا و نَقَّطَ به الزمانُ: زمانہ سے موافق ہونا۔

۳۔ النَاقِط والنقیط: غلام کا غلام۔

○ نَقَّطَ ہ: پر دھبے ڈالنا، کو بدرنگ کرنا، پر نقطے ڈالنا، کو نقطے لگانا، کو ٹپکانا، ٹپکانا، آہستہ کرنا، کم کرنا۔ ـــ ہ / ب علی: کو تحفے کے طور پر کوئی چیز دینا۔ ـ ها: دلہن کو شادی کا تحفہ دینا، نُقطَة: نقطہ، فل سٹاپ، قطرہ، ذرہ، ذہ بھر، ذرا سا۔ (موٹر اور مشینوں کا) پرزہ، معاملہ، نقطہ، تفصیل، شق، جگہ، گاؤں، کھیڑا، قصبہ (جس میں منڈی ہو) شاخ، چوکی، (فوجی) صدر جہاں سے مسلح افواج کو رسد بھیجا جاتا ہے۔ پوزیشن، فوجی چوکی، شادی کا تحفہ النقطتان: کولن Colon(:)۔ نقطة الاتصال: جنکشن، مقام اتصال۔ نقطة الارتکاز: قلعہ بند مورچہ۔ گھرا ہوا علاقہ جہاں سے مزاحمت کی جاتی ہے۔ نقطة اساسیه: کلیدی پوزیشن۔ نقطة الاستفهام: سوالیہ نشان (؟) نقطة الاطفاء یا نقطة المطافی: آگ بجھانے کا مرکز (Firestation) نقطةُ البولیس: پولیس اسٹیشن تھانہ۔ نقطة التحول: مڑنے کی جگہ۔ نقطہ انقلاب، واقعات کا پلٹا یا تبدیلی، مدوجذر کا دورہ۔ نقطة جُمرُکیة: کسٹم سٹیشن یا ہاؤس۔ نقطةُ الذنب: اجرام فلکی کے مدار کا وہ مقام جب وہ سورج سے بہت دور ہوتے ہیں (Aphelion)۔ نقطة الراسِ: کسی سیارے کا وہ نقطہ جو سورج سے قریب تر ہو (Peri-he- lion) نقطة القتال: لڑائی کا علاقہ، کارروائی کا علاقہ، داءُ النقطه: مرگی (epilepsy) فُوز بالنقط: (کھیل میں) پوائنٹس پر کامیابی۔ نُقُوط: دلہن کو شادی کا تحفہ۔ نَقَّاطَة: ڈراپر (Dropper) فصلة منقوطة: وقفِ ناقص یعنی کولن (;)Semi colon

نقع: ۱۔ نقع ـ نَقعًا ریقَهٗ: منہ میں تھوک جمع کرنا۔ ـــ الدواءَ وغیرہٗ فی الماء: دواء وغیرہ کو پانی میں رکھنا۔ ـ الرجُلُ: مہمانوں کے لئے جانور ذبحہ کرنا۔ ـ فلانًا: کو قتل کرنا۔ ـ الموتُ: موت زیادہ ہونا۔ ـ بالشراب: شراب سے شفا پانا۔ ـ نقوعًا السمّ فی انیاب الحیّة: سانپ کے دانتوں میں زہر جمع ہونا۔ ـــ من الماء و به: پانی سے سیراب ہونا۔ مانقعتُ بخبره: میں نے اس کی خبر کی تصدیق نہیں ـ نقعًا و نُقُوعًا الماء فی بطن الوادی: پانی کا وادی میں جمع ہو کر بہت دیر ٹھہرنا۔ ـ الماءُ العَطَش: پانی کا پیاس کو بجھانا۔ انقع الدواء وغیرَہ فی الماء: دواء وغیرہ کو پانی میں رکھنا۔ ــــ ت الحیةُ السمَّ فی أنیابها: سانپ کا زہر کو اپنے دانتوں میں جمع کرنا۔ ـــ المیتَ: میت کو دفن کرنا۔ ـــ لفلان شرًّا: کے لئے شر دل میں چھپانا۔ ــــ الرجُلُ: مہمانوں کے لئے جانور ذبح کرنا۔ ـ الماءُ فلانًا: کو پانی کا سیراب کرنا۔ ـ العَطَش: پیاس بجھنا۔ اِنتَقَعَ النقیعَةَ: مہمانی کیلئے جانور ذبحہ کرنا۔ ــــ القوم نقیعةً: تقسیم سے پہلے غنیمت کے کسی جانور کو ذبح کرنا۔ اِستَنقَعَ فلانٌ فی النهر: نہر میں گھس کر دیر تک اس میں نہانا۔ ـــ الماءُ فی الغدیر: پانی کا تالاب میں جمع ہونا۔ النَاقِع فا، سمٌّ ناقِع: زہر قاتل۔ دم ناقِع: تازہ خون۔ دواء ناقِع: فائدہ مند دواء۔ النَّقعِ (مص) جمع انقع: جمع شدہ پانی۔ ـ جمع نِقَاع و انقُع: نرم زمین جس میں پانی جمع ہو، ہموار اور نشیبی زمین، پانی ٹھہرنے کی جگہ۔ نقع البئر: کنویں میں جمع شدہ پانی، کنویں کے پانی کی زیادتی۔ النقاع: خشک انگور وغیرہ بھگونے کا برتن۔ النقاعَة: وہ پانی وغیرہ جس میں کوئی چیز بھگوئی جائے۔ النقعاء جمع نقاع: دلدلی زمین۔ النقوع: پانی میں بھگوئی جانے والی چیز، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ خشک خوبانی، ایک رنگ جس میں خوشبو پڑی ہو۔ فلانٌ نقوعُ اذنٍ: فلاں شخص ہر بات مان لیتا ہے النقیع جمع انقِعَة: بھگوئی ہوئی خشک انگور کا شربت، ہر وہ چیز جس میں کھجور بھگوئی جائے، ٹھنڈا میٹھا پانی۔ بہت پانی والا کنواں۔ دواء نقیع: فائدہ مند دواء۔ النقیعة جمع نَقَائِع: سفر سے آنے والے کے لئے بنایا جانے والا کھانا، مہمان کے لئے ذبح کیا ہوا جانور۔ الناسُ نقائِع الموت: موت لوگوں کو ذبح کرنے والی ہے۔ الانقع: زیادہ پیاس بجھانے والا۔ کہا جاتا ہے۔ الرشف انقع: تھوڑا تھوڑا کر کے پینا پیاس کو بجھاتا ہے، یہ جملہ جلد بازی ترک کرانے کے لئے بولا جاتا ہے۔ الانقوعَة: ہر ایسی جگہ جس کی طرف پانی بہہ کر آئے۔ انقُوعة المیزاب: پرنالے کی نالی۔ المستنقع: دلدل، تالاب کا گھاٹ۔ المَنقع جمع مَنَاقِع: سمندر، پانی جمع ہونے کی جگہ۔ آبپاشی۔ المِنقَع: وہ برتن

جس میں کوئی چیز بھگوئیں۔ اَلْمُنْقَعُ: مٹکا، پتھر کا پیالہ، بھگونے کے قابل چیز، خالص سرد کیا ہوا دودھ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مُنْقَعٌ: فلاں کی رائے سے تسلی ہو جاتی ہے۔ سمٌّ مُنْقَعٌ: مربی۔ المُنْقُعُ: چھوٹی ہانڈی جس میں دودھ کھجوریں بچے کے کھانے کے لئے ڈالی جاتی ہیں۔ المِنْقَعَة: خشک انگور وغیرہ بھگونے کا برتن۔ والمَنْقَعَة: چھوٹی ہانڈی جس میں دودھ کھجوریں بچے کے کھانے کے لئے ڈالی جاتی ہیں۔

۲۔ نَقَعَ۔ نَقْعًا: آواز بلند کرنا ــ فلانًا بالشتم: کو بری بری گالیاں دینا۔ ــ نُقوعًا الصوتُ: آواز کا بلند ہونا۔ ــ الصارخُ بصوته: چیخنے والے کا مسلسل چلانا۔ انتقع الصارخ بصوته: چیخنے والے کا مسلسل چلانا۔ استنقع الصوتُ: آواز بلند ہونا۔ النَقْعَاء جمع نِقاع: آواز۔ النَقّاع: مبالغہ کا صیغہ۔ ان فصیلوں کا مدعی جو اس میں نہ ہوں۔ النقیع: چیخ۔

۳۔ نَقَعَ۔ نَقْعًا الجیب: گریبان چاک کرنا۔

۴۔ انْقَعَ الماءُ: پانی کا متغیر ہو کر زرد رنگ ہو جانا۔ انْتَقَعَ لونُهُ: غم اور گھبراہٹ سے رنگ بدل جانا۔ اِسْتَنْقَعَ الماءُ: پانی کا متغیر ہو کر زرد رنگ ہونا۔

۵۔ النَقْعُ: مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ۔ ــ جمع نِقَاع ونُقُوع: گرد و غبار۔ النَقْعَاء جمع نِقاع: گرد و غبار۔ النقیع: وہ شخص جس کی ماں غیر قوم سے ہو۔

○ نَقَعَ۔ نَقْعًا ہ فی: میں کوئی چیز بھگونا۔ ــ ہ: پیاس بجھانا، چائے وغیرہ: بھگونا، چائے بنانا۔ ــ: پانی کا تالاب میں بند ہونا۔ انْقَعَ ہ: کو سیال شے میں بھگونا، بھگو کر نرم کرنا، پیاس بجھانا، استنقع: پانی کا بند ہونا، کھڑا رہنا، اور اس وجہ سے گندہ ہو جانا، زمین کا دلدلی ہونا۔ نَقْع: بھگو کر نرم کرنا۔ بھگونا جمع اَنْقُع: کھڑا پانی۔ دلدل۔ جمع نِقاع ونقوع: گرد و غبار۔ نقاعة: نچوڑ، زلال۔ جوشاندہ۔ نقیع: بھگوئی ہوئی بھر جانے والی یا سرایت کرنے والی چیز۔ پانی میں بھگوئے ہوئے خشک پھلوں کا رس۔ نقوع: خشک پھل، خشک خوبانیاں۔ مَنْقَع جمع مَنَاقِع: دلدل، جگہ جہاں پانی جمع ہو جائے۔ منقع الدم: پھانسی گھر۔ مَنْقُوع: نرم کرنے کے لئے بھگوئی ہوئی، بھگوئی ہوئی چیز۔ نچوڑ، زلال، جوشاندہ۔ مُسْتَنْقَع جمع مُسْتَنْقَعَات: دلدل، نشیبی داخلی علاقہ۔ حُمّی المُسْتَنْقَعَات: ملیریا، دلدلی بخار۔

نقف: ۱۔ نَقَفَ۔ نَقْفًا هامةَ الرجُلِ: کی کھوپڑی توڑنا۔ ــ فلانًا: کو ہلکی ضرب لگانا۔ ــ الفرخُ البیضةَ: چوزے کا انڈہ پھوڑ کر نکلنا۔ ــ عن الشیء: کی تفتیش کرنا۔ الرمّانةَ: انار کو دانے نکالنے کے لئے چھیلنا۔ ــ الشرابَ: شراب کو صاف کرنا۔ اس میں پانی ملانا۔ ــ الحنظلَ ونحوَهُ: اندرائن کو پھاڑ کر دانے نکالنا صفت فاعلی ناقف۔ الحنظل نقیف ومنقوف ــ ہُ بظفرہ: کو ناخن سے چٹکی بھرنا۔ ــ ہُ بحصاة: کو کنکر مارنا۔ نَاقَفَ مُنَاقفةً و نِقَافًا: ایک دوسرے کی کھوپڑی پر تلوار مارنا۔ انْقَفَ فلانًا العظمَ: کو ہڈی گودا نکالنے کے لئے دینا۔ الجرادُ الوادی: ٹڈی کا وادی کو انڈوں سے بھر دینا، وادی میں ٹڈی کے انڈوں کی بہتات ہونا۔ الحنظلَ: دانے نکالنے کے لئے اندرائن کو توڑنا، پھوڑنا۔ تَنَقَّفَ الحنظلَ: دانے نکالنے کے لئے اندرائن کو توڑنا۔ انتقف الحنظلَ: اندرائن توڑ کر دانے نکالنا۔ ــ الشیءَ: کو نکالنا۔ النِقف والنُقف: وہ چوزہ جو ابھی انڈے سے نکلا ہو۔ النَقَفَة: پہاڑی کی چوٹی یا ٹیلہ پر چھوٹا گڑھا۔ النِقَاف: مص: رجُلٌ نِقَافٌ: مدبر اور صاف نظر مرد۔ دور اندیش کہا جاتا ہے: جاءا فی نِقَافٍ واحدٍ: وہ دونوں برابر برابر چلتے ہوئے آئے۔ الیومَ قِحاف وغداً نِقافٌ: آج شراب پینے کا اور کل کام کرنے کا دن ہوگا۔ النَقَّاف: لکڑی کاٹنے والا، لکڑی سے چیزیں بنانے والا، پکا گداگر، سوال کرنے کا شوقین اور عادی۔ رجُلٌ نَقَّافٌ: دور اندیش مرد۔ النَقّافة: سوال کرنے کی شوقین اور عادی۔ النَقِیف جمع نُقُفٌ: دیمک کا کھایا ہوا تنا۔ المِنْقَاف: پرندہ کی چونچ۔ المَنْقُوف (مفع): زرد رنگ دبلے پتلے چہرے اور کم گوشت والا، کمزور۔ جذعٌ منقوف: دیمک خوردہ تنا۔ عینان مَنْقُوفَتَان: سرخ آنکھیں۔

۲۔ المِنْقَاف: ایک قسم کی کوڑی جو پالش کے کام آتی ہے۔

○ نُقَف ونِقَف: چوزہ۔

نقل: ۱۔ نَقَلَ۔ نَقْلاً الشیءَ: کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرنا۔ ــ الکلامَ عن قائِله: قول قائل سے روایت کرنا۔ ــ الکتابَ: کتاب نقل کرنا۔ ــ الکتابَ اِلی لغة کذا: کتاب کا کسی زبان میں ترجمہ کرنا۔ ــ خفَّ البعیر او الثوبَ او النعلَ: اونٹ کے کھر یا کپڑے یا جوتے کو پیوند لگانا اور درست کرنا۔ نَقَّلَ الشیءَ: چیز کو زیادہ منتقل کرنا۔ ــ فلانٌ ضیفه: مہمان کو پستہ سیب وغیرہ کھلانا۔ الخفَّ او الثوبَ: اونٹ کے کھر یا کپڑے کو پیوند لگانا۔ تشدید مبالغہ کیلئے ہے۔ ــ تِ الشجّةُ العظمَ: زخم کا ہڈی کو توڑ ڈالنا۔ نَاقَلَ الفرسُ: گھوڑے کا جلدی جلدی پاؤں اٹھانا، پتھروں سے بچ کر ہوشیاری سے دوڑنا۔ ــ تُ فلانًا: میں نے فلاں سے شراب چھیننے کی کوشش کی۔ الشاعِرُ الشاعِرَ: شاعر کا شاعر کی مخالفت کرنا۔ ــ ہُ الاقداحَ: ایک کا دوسرے کو پیالے دینا اور لینا۔ ناقلتُ ہُ الحدیثَ: ایک دوسرے کو روایت سنانا۔ اَنْقَلَ الخفَّ او النعلَ: اونٹ یا گھوڑے کے کھر کی اصلاح کرنا۔ تَنَقَّلَ: زیادہ منتقل ہونا۔ ــ من مکان اِلی آخر: ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہونا۔ ــ الرجُلُ: نقل کھانا (نقل بادام سیب وغیرہ کو کہتے ہیں) تَنَاقَلُوا الحدیثَ فیما بینهم: ایک دوسرے سے حدیث روایت کرنا اور اس کے لئے ایک دوسرے کا حریف ہونا۔ اِنْتَقَلَ مِن مکان اِلی آخر: ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہونا۔ نقل مکانی کرنا۔ ــ فلانٌ اِلی رحمة الله او اِلی رضوانه: مرجانا۔ ــ الفرسُ: گھوڑے کا چلنے میں پچھلے پاؤں کو اگلے پاؤں کی جگہ رکھنا۔ النَاقِل جمع نَاقِلون ونَقَلَة: فا۔ النَاقِلة جمع نَوَاقِل: ناقل کا مونث، ــ من الناس: نقل مکانی کے عادی لوگ۔ نَوَاقِلُ الدهر: حوادث زمانہ۔ نَوَاقِلُ العرب: ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں منتقل ہو کر اس کی طرف اپنی نسبت کرنے والا۔ النَقْل (مص): پرانا جوتا یا موزہ۔ کہا جاتا ہے۔ (نعلٌ نقلٌ و خف نَقْلٌ: پرانا جوتا اور پرانا موزہ) مختصر راستہ۔ وہ چیز جو شراب کے ساتھ استعمال کی جائے جیسے پستہ، سیب وغیرہ۔ کبھی ضَمّ کے ساتھ آتا ہے یعنی کہا جاتا ہے نُقْل جمع نُقُول ونُقُولات، ــ عند اهل العربیة: لفظ کو ایک معنی کے لئے وضع کرنے کے بعد پھر اس کو دوسرے معنی کے لئے وضع کرنا۔ النِقْل: پرانا جوتا یا موزہ۔ گھوڑے یا اونٹ کا پرانا کھر، سم۔ رجُلٌ نَقِل: حاضر جواب، جھگڑالو آدمی۔ مکانٌ نَقِلٌ: چھوٹے چھوٹے پتھروں کی جگہ۔ النَقَل: ایک تیر سے نکال کر دوسرے تیر میں لگایا ہوا پر۔ (کہا جاتا ہے: لاتَرِشْ سهمی بنَقَلٍ: میرے تیر کو دوسرے تیر کا پر نہ لگاؤ) شور و شغب کے ساتھ جواب۔ گری ہوئی عمارت کا ملبہ۔ چھوٹے پتھر، مختصر راستہ۔ ــ جمع اَنْقَال و نِقَال: پرانا جوتا یا موزہ۔ النَقْلَة: نقل کا اسم مرہ۔ نِقال کا واحد النُقْلَة جمع نُقَل: انتقال، چغلی۔ النِقْلة جمع نِقَل: نقل کا اسم نوع۔ النِقَال (مصدر نَاقَلَ) جوڑے چھوٹے جوتے۔ یا نیزے کے چوڑے چھوٹے پھل واحد نَقْلَة: اونٹوں کا اپنے آپ پینا، کہا جاتا ہے شربت الابل نقالاً: اونٹوں نے خود پیا۔ النَقّال: مبالغہ کا

صیغہ: چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا۔ فرسٌ نقّال: تیز رو گھوڑا۔ النقیل: بارش کی زمین سے خشک زمین میں آنے والا سیلاب، نعل بند، مختصر راستہ۔ نووارد مرد۔ نووارد عورت۔ رجُلٌ نقیل: نووارد مرد۔ ھذا فرسٌ ذو نقیل: یہ تیز رو گھوڑا ہے۔ النقیلة جمع نقائِل ونقیل: نووارد عورت۔ جوتے اور موزہ کا پیوند المنقل: پرانا جوتا یا موزہ مختصر راستہ، پہاڑی راستہ۔ چولہا (Stove) فرسٌ مُناقِل و مِنقَلٌ: تیز رو گھوڑا۔ المنقلة: سفر کی ایک منزل۔ اونٹ وغیرہ کے موزے کا پیوند۔ ارضٌ مُنَقَّلة: چھوٹے چھوٹے پتھروں والی زمین۔ المنقلة جمع مَناقِل: سٹریچر، ایک قسم کا کھیل۔ المُناقلة: ایک دوسرے سے حدیث کی روایت۔

۲۔ النِقلة جمع نِقَلٌ: عورت جس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے شادی کے پیغام نہ آئیں۔

○ نَقَلَ ـــ نَقلاً ہ: کو اس کی جگہ سے بدلنا، ادھر ادھر کر دینا۔ ہ الی: کو تک لیجانا۔ ـــ ہ/ ہ من ـ الی: کو سے تک منتقل کرنا۔ ـــ ہ الی: کو کے سپرد کرنا۔ ـــ ہ: کو برخاست کر دینا۔ ـ الی: سے تک متحرک ہونا، کسی جگہ جانا، منتقل ہونا۔ ـ من: سے نقل کرنا۔ ـ من ـ الی: ایک زبان سے دوسری میں ترجمہ کرنا۔ ـ عن: مصنف یا تصنیف کا حوالہ دینا۔ ـــ ہ: (متن) پیش کرنا۔ ـــ ہ: کھاتہ نویسی میں کسی مد کو درج کرنا۔ ہ الی تک بیماری پھیلانا۔ ـ الی ہ: کو چھوت لگانا۔ ـ ہ الی: کو کوئی چیز خصوصاً حق منتقل کرنا۔ نقّل ہ: کو ادھر ادھر کرنا، کو یکے بعد دیگرے اس کی جگہ سے بدلنا آگے لیجانا، منتقل کرنا۔ نقّل خطاہ: لمبے لمبے قدم اٹھانا۔ ڈگ بھرنا۔ ناقل ہ ہ: سے الفاظ یا باتوں کا تبادلہ کرنا، پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا، سے کی رپورٹ کرنا، کو کی رپورٹ دینا، کو سے مطلع کرنا، کو کچھ دینا۔ تنقّل: لیجایا جانا، منتقل کیا جانا (ریڈیو سے) نشر ہونا، جائے سکونت تبدیل کرنا، نقل مکانی کرنا۔ مورچہ تبدیل کرنا، ادھر ادھر متحرک ہونا، گھومنا پھرنا، ترک وطن، ہجر کرنا، سفر کرنا۔ تناقل ہ: کو لیجانا، کی نقل وحمل کا انتظام کرنا، کے متعلق ایک دوسرے کو رپورٹ کرنا، ایک دوسرے کو بتانا، کا تبادلہ کرنا، کو پھیلانا، بیان کرنا، گزارنا، حوالے کرنا، دینا، زبانی پھیلانا۔ تناقلتهُ الالسن: ایک منہ سے دوسرے منہ تک پہنچنا، ہر ایک کی زبان پر ہونا، شہر میں چرچا ہونا۔ تناقلتهُ الایدی: ایک سے دوسرے ہاتھ تک پہنچنا، ہاتھوں ہاتھ پہنچنا۔ تناقلت الجرائدُ الخبرَ: پورے پریس نے خبر شائع کی۔

تناقَلَ الکلامَ: ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ اِنتقَلَ: لیجایا جانا، نقل ہونا، منتقل کیا جانا، پہنچایا جانا (ریڈیو) سے نشر ہونا، نقل مکانی کرنا، کسی دوسری جگہ چلے جانا، مورچہ بدلنا (فوج کا) ادھر ادھر ہونا، گھومنا، ہجرت کرنا، ترک وطن کرنا، ادھر ادھر سفر کرنا، بھٹکنا، (اہلکار کی) تبدیلی ہونا، (جہاز کا) خطرے سے نکالا جانا، بچایا جانا، منتقل کیا جانا، سونپا جانا (بیماری کی) رسائی ہونا۔ ـ الی: تک پھیلنا (افواہ) کا پھیلنا، منتقل ہونا، سفر کرنا، کو روانہ ہونا، کو جانا، کی جانب بڑھنا، کا رخ کرنا، کی طرف مڑنا (گاڑی کا) ـ من الی: ایک مالک سے دوسرے کے پاس منتقل ہونا (لہروں کا) پھیلنا۔ حملہ سے دفاع پر آجانا۔ ـ من/ عن: سے دور چلا جانا، روانہ ہونا، رخصت ہونا۔ ـ فی: میں ادھر ادھر جانا، کا دورہ کرنا، یکے بعد دیگر جانا۔ انتقل بہ الی: کو کوئی چیز منتقل کرنا۔ انتقل الی جوار ربہ: مر جانا، اپنے رب کے حضور پہنچ جانا۔ نقل: ٹرانسپورٹیشن، ٹرانسپورٹ، انتقال، ترسیل، ایصال، پہنچانا، اٹھا کر لیجانا، ڈھونا، بار برداری، قمالی، نقل وحمل، ذریعہ نقل و حمل۔ (اہلکار کا) تبادلہ، رہائش کی تبدیلی، منتقلی، ہٹانا، اٹھانا، ترسیل، ابلاغ، نشریہ۔ نـقـل: ترجمہ، روایت، رپورٹ، سرگزشت، اندراج، کھاتے میں درج کرنا، تندہی، انتقال، علاقہ یا حقوق دوسرے کے سپرد کرنا۔ نقلاً عن: کی بنا پر، کے مطابق، نقل الدم ونقل الدماء: انتقال خون۔ نقل الصور بالاسلکی: ریڈیو فوٹوگرافی، نقل میکانیکی: موٹر ٹرانسپورٹ (مسافر اور سامان کی) اجرة النقل: چھکڑے کا کرایہ، بار برداری کا خرچ، جہاز کا کرایہ، اسباب کا محصول۔ سیّارة النقل: ٹرک، لاری۔ معالیمُ النقل: منتقلی کی فیس، وسائل النقل: ذرائع نقل و حمل، گاڑیاں۔ سیارة نقلیة: ٹرک لاری۔ نقلیات: نقل و حمل کی خدمات، نظام نقل وحمل، نقل وحمل، سواریاں، گاڑیاں۔ نقلیات عسکریہ: فوجی گاڑیاں۔ نَقل ونُقل جمع نُقُول: خشک پھل چینی کے قوام میں رکھی ہوئی چیزیں جیسے بادام وغیرہ، کھانڈ کی مٹھائیاں، ٹافیاں جو کھانے کے بعد کھائی جاتی ہیں۔ نقل: ملبہ۔ نُقلة: ترک وطن، ہجرت۔ نقلة جمع نُقَل: گپ شپ۔ دوسروں کے متعلق افواہیں۔ نمونہ، نقش، ماڈل۔ نقّال: آسانی سے اٹھایا جاسکنے والا، سفری، آسانی سے لیجایا جاسکنے والا۔ نقّالة جمع نقّالات: سٹریچر، ایمبولینس، گاڑی، ٹرک، لاڑی۔ نقیل: پہاڑی پگڈنڈی، درہ، گھاٹی مَنقل ومَنقلة جمع مناقِل: انگارہ دان۔ مُنقلة: ایک دن کا سفر، راستہ میں ٹھہرنے کا مقام۔ پروٹریکٹر۔ ڈی (D) زاویہ پیما۔ طورُ الانتقال: عبوری دور۔ فترةُ الانتقال: درمیانی وقفہ۔ عید انتقال العذراء: عید استقبال مریم۔ عھد انتقالی: عبوری دور۔ ناقِل جمع ناقِلون ونقلة ونقّال: لیجانے والا۔ بارکش، بار بردار، حمّال: اٹھانے والا، لانے والا، حامل، بیرا، خدمتگار، مترجم، نقل نویس، موصل (Conductor)۔ ناقِلُ السرعة: گیئر منتقل کرنے والا لیور (آٹوموبائل کا) ناقلة: گاڑی۔ ناقلة البترول و ناقلة الزیت: ٹینکر، نفت بردار جہاز۔ ناقلة الطائرات: طیارہ بردار جنگی جہاز۔ منقول: لیجایا ہوا، پہنچایا ہوا، ڈھویا ہوا، تبادلہ شدہ، نشر کیا ہوا، ترجمہ شدہ، نقل کیا ہوا، لکھا ہوا، متحرک، آسانی سے منتقل ہوسکنے یا کیا جاسکنے والا، آسانی سے اٹھایا جاسکنے والا۔ سفری، روایتی، ذخیرہ احادیث جمع منقولات: متحرک چیز منقولات یا اموال (املاک) منقولة: منقول جائیداد۔ منقولہ اشیاء۔ ذاتی جائیداد۔ منقولات المنزل: گھریلو فرنیچر سامان۔ مستشفی منتقل: عارضی ہسپتال، ایمبولینس، الاعیادُ المنتقلة: متحرک جشن۔ عِلّة منتقلة: متعدی بیماری۔

نقم: ۱۔ نَقَمَ، نَقِمَ ـ نَقماً وتَنقاماً من فلان: کو سزا دینا۔ ـ الامرَ علی فلان او من فلان: کے کام پر اسے ملامت کرنا، اس پر عیب لگانا یا اسے مکروہ جاننا، کہا جاتا ہے: نَقَمَ فلانٌ وِترَہُ: فلاں شخص نے بدلہ لے لیا۔ ما تَنقُمُ منا: جس پر تو ہمیں مطعون کرتا ہے۔ بدنام کرتا ہے۔ نقّمَ تَنقیماً: کسی چیز کو بہت ناپسند کرنا۔ اِنتقَمَ منه: کو سزا دینا۔ النَقمة والنِقمة والنَقِمة جمع نِقَم و نَقِم ونَقِمات: انتقام، سزا کے ذریعے بدلہ۔

۲۔ نَقَمَ ـ و نَقِمَ ـ نَقماً الشئَ: کو جلدی کھالینا۔

۳۔ النَقَم: راستہ کا درمیان۔ النَقیمة: الطبیعة کا بدل۔ کہا جاتا ہے: فلان میمون النقیمة: فلاں پاک نفس ہے۔

○ نَقِمَ ـــ نَقماً و نَقَمَ ـ نَقماً من: سے انتقام لینا، بدلہ لینا۔ ـــ علی: کا مخالف یا دشمن ہونا، کے خلاف ہونا، کے خلاف پر کینہ و انتقام پروری والا ہونا، کے خلاف بغض وعناد رکھنا، کو برا جانا۔ ـ علی ہ: پر کیلئے غصہ ہونا، ناراض ہونا۔ ـ علی: سے نفرت کرنا، سخت نفرت کرنا۔ ـ ہ علی: کے خلاف کچھ رکھنا۔ اِنتقَمَ من: سے انتقام لینا۔ ـــ ل: کا بدلہ لینا۔ نَقِمة:

انتقام۔ بدلہ، کینہ، بغض، عناد، تلخی، برا ماننا، آزردگی، بدبختی، بدنصیبی، آفت، مصیبت، ادبار، نحوست، سزا، آزمائش، ایذا دکھ، تکلیف بھاری ضرب، کئے کی سزا، گناہوں کا بدلہ نِقْمَة ونَقِمَة جمع نِقَم ونِقَمات: مندرجہ بالا معانی، انتقام بدلہ۔ انتقام ناقم: بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا۔ — علی کے خلاف کے مخالف، پر برہم، غصے، ناراض۔ مُنْتَقِم: انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا، کینہ جو، کینہ پرور، انتقام پرور۔

نقه: نَقِهَ۔ نَقْهًا فلانٌ من مرضه: صحت یاب ہوجانا مگر کمزوری باقی رہنا صفت ناقِه جمع نُقَّه — نَقْهًا ونُقُوهًا ونَقَاهَةً ونَقَهانًا الحديثَ: بات سمجھنا صفت۔ نَقِه وناقِه کہا جاتا ہے: فلان لايفقه ولاينقه۔ وہ نہیں سمجھتا۔ نَقِهَ — نَقَهًا فلانٌ من مرضه صحت یاب ہونا مگر کمزوری باقی رہنا صفت ناقِه جمع نُقَّه۔ أنْقَهَهُ اللّٰهُ من مرضه: اللہ اسے بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ — فلانًا الحديثَ کو بات سمجھانا۔ کہا جاتا ہے۔ أنْقِهْ لي سمعَكَ: میری بات سن۔ اِنْتَقَهَ من الحديث: بات سے تسلی پانا۔ — من مرضه: بیماری سے شفایاب ہونا۔ اِسْتَنْقَهَ: پوچھنا۔ — الحديثَ: بات سمجھنا۔ النُّقْهَة صحت یابی۔ کہا جاتا ہے لہ في كل عام مَرْضَة ونُقْهَة: وہ ہر سال بیمار ہوتا اور صحت یاب ہوتا ہے۔

○ دار النَّقاهَة: آرام مرکز، روبصحت مریضوں کا گھر۔ نَقِه وناقِه: روبصحت۔ نَقْه و نَقْهَة ونَقاهَة: صحتیابی، افاقہ، شفا، شفایابی۔

نقو: ۱۔ نَقَا يَنْقُو نَقْوًا العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ نَقِيَ يَنْقَى نَقَاوَةً و نَقَاءً و نَقَاءَةً و نُقَاوَةً و نُقَايَةً صاف ستھرا ہونا، خوبصورت ہونا، خالص ہونا، صفت نَقِيّ: نَقَّى تَنْقِيَةً هُ: کو صاف ستھرا کرنا، پسند کرنا۔ — الطعامَ غلہ کو کوڑے کرکٹ سے صاف کرنا۔ أنْقَى إنْقَاءً هُ: کو صاف ستھرا کرنا، پسند کرنا۔ — الطعامَ: غلہ سے کوڑا کرکٹ نکالنا۔ — البُرُّ: گیہوں کا موٹے دانے والا ہونا۔ — تِ الإبلُ وغيرُها: اونٹوں وغیرہ کا موٹا ہونا۔ صفت مُنْقِيَة جمع مُنْقِيات — العودُ: لکڑی میں پانی چلنا، لکڑی کا گیلا ہونا۔ تَنَقَّى تَنَقِّيًا هُ: کو پسند کرنا۔ العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ اِنْتَقَى هُ: کو پسند کرنا۔ — العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ النَّقَا والنَّقْو والنِّقْو جمع أنْقَاء: ہر گودے دار چیز۔ نَقَاة الشيء: عمدہ حصہ۔ خلاصہ۔ نَقَاةُ الطعام و نُقَاتُهُ ونُقَايَتُهُ: غلہ کا کوڑا کرکٹ، کوڑا، کرکٹ سے صاف غلہ (ضد)۔ نَقْوَة: عمدہ حصہ۔ نَقَاوَة الشيء: عمدہ حصہ۔ خلاصہ۔ النُّقَاوَى جمع نَقَاوِي (ن): ایک قسم کی نباتات جس سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ نُقَاوَة الشيء جمع نُقَاوَى ونُقَاء: عمدہ چیز۔ خلاصہ۔ نُقَايَةُ الشيء جمع نُقَايَا ونُقَاء: عمدہ حصہ خلاصہ۔ نُقَايَةُ الطعام: غلہ کا کوڑا کرکٹ۔ غلہ جس سے کوڑا کرکٹ نکال دیا گیا ہو (ضد) النَّقِيّ جمع نِقَاء وأنْقِيَاء و نُقَوَاء: صاف ستھرا۔ الأنْقَى م نُقْوَى: اسم تفضیل۔ رَجُلٌ أنْقَى م نَقْوَاء: باریک لمبی ہڈیوں والا۔ فَخِذٌ نَقْوَاء: باریک ہڈیوں والی اور کم گوشت والی ران (ٹانگ بھیڑ بکری کی)۔

۲۔ النَّقَاة ریت کا سفید اور بے برگ وگیاہ ٹیلہ۔ النَّقَا: ریت کا ابھرا ہوا قطعہ۔ مثنی نَقَوان ونَقَيان جمع أنْقَاء ونُقِيّ ونُقْيان۔ بنات النَّقَا (ح): ریت میں رہنے والا ایک قسم کا کیڑا۔ اسے شحمة النَّقَاء بھی کہتے ہیں۔ النِّقَة: ثقہ کا تابع ثِقَةٌ نِقَةٌ: خالص اعتماد۔ اس کی اصل نِقْو سے لام کلمہ حذف کرکے اس کی جگہ ت لگائی گئی ہے۔

○ نقا: پاکیزگی، خالص ہونا۔ نَقَاوَة: پاکیزگی، خالص ہونا، صفائی، کھرا پن (قیمتی دھات کا)، انتخاب، چناؤ، بہترین حصہ، پسند، عمدہ ترین، نفیس ترین۔ نُقَايَة: انتخاب، بہترین حصہ، پسند۔ نَقِيّ جمع نِقَاء و أنْقِيَاء: خالص، صاف ستھرا، بے داغ، بے عیب، شفاف شفاف، صاف، نتھرا ہوا، گرد وغبار یا غیر متعلق مادہ کے بغیر۔ تَنْقِيَة صاف کرنا، اچھی طرح سے دھونا، پاک کرنا، خالص بنانا، چھاننا چھانٹ کر الگ کرنا، الگ الگ ڈھیریاں بنانا۔ اِنْتِقَاء: انتخاب۔ قدرة على الانتقاء: قوت انتخاب۔ مُنْتَقًى منتخب، پسندیدہ، چیدہ، نادر، عمدہ، نفیس۔

نقی: ۱۔ نَقَى يَنْقِي نَقْيًا العظمَ: ہڈی سے گودا نکالنا۔ النِّقْي جمع أنْقَاء: ہڈی کا گودا، آنکھ کی چربی۔ النَّقِيَة: لفظ، کلمہ کہا جاتا ہے: سمعتُ نقيةَ حق: میں نے حق کا کلمہ سنا۔ النَّقِيّ جمع نِقَاء وأنْقِيَاء و نُقَوَاء: صاف۔ صاف ستھرا۔ النَّقِيَّة جمع نَقَايَا: نقی کا مونث۔ کلمہ۔ لفظ۔

۲۔ نَقِيَ يَنْقَى نَقَاءَةً: سے ملاقات کرنا۔ المُنْتَقَى والمُنَقَّى: راستہ۔ سڑک۔

نكّ: ۱۔ نَكَّ ـُ نَكًّا على الغريم: قرضدار پر سختی کرنا۔ — العملَ: کام کو درست کرنا۔

۲۔ نَكْنَكَ نَكْنَكَةً الأمرَ: معاملہ کی اصلاح کرنا۔ — على غريمه: قرضدار پر سختی کرنا۔

نكا: نَكَأ ـَ نَكْأ القرحةَ: زخم کو اچھا ہونے سے پہلے چھیلنا۔ — العدوَّ وفي العدوِّ: دشمن میں کئی قتل وزخمی کرنا، خونریزی کرنا۔ فُلانًا حَقَّهُ کا پورا حق ادا کرنا۔ اِنْتَكَأَ إنْتِكَاءً حَقَّهُ من فلان: کسی سے اپنا حق لیکر قبضہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: هو زُكَأة نُكَأة وہ اپنے ذمہ واجب جلدی ادا کرنے والا ہے۔ ٹال مٹول نہیں کرتا۔

نکب: ۱۔ نَكَبَ ـُ نَكْبًا و نُكُوبًا عنهُ: سے ہٹ جانا۔ — الدهرُ فلانًا: کو زمانہ کا مصیبت میں مبتلا کرنا۔ نِكَابَةً و نُكُوبًا فلانٌ على قومه: اپنی قوم کا قابل بھروسہ مددگار ہونا۔ — نَكْبًا الشيءَ وبه: کو پھینک دینا۔ — الإناءَ: برتن میں جو کچھ ہو گرادینا، بہادینا۔ — الكنانةَ: ترکش میں کا سب کچھ بکھیر دینا۔ — تِ الحجارةُ رِجلَهُ: پتھر کا پاؤں کو زخمی کردینا۔ — نُكُوبَاتِ الريحُ: ہوا کا ٹیڑھا چلنا۔ نَكِبَ ـَ نَكَبًا عن الطريق: راستے سے ہٹ جانا۔ — البعيرُ: اونٹ کا نکب بیماری والا ہونا۔ الرجُلُ: کا کندھے کی بیماری والا ہونا۔ نُكِبَ: بمصیبت زدہ ہونا۔ نَكَّبَ عن الطريق: راستہ سے ہٹ جانا، ایک طرف ہوجانا۔ — الشيءَ: کو ایک طرف کرنا، ہٹانا، کہا جاتا ہے۔ نَكَّبَهُ الطريقَ ونَكَّبَ به الطريقَ ونَكَّبَ به عن الطريق: کو راستے سے ہٹانا اور ایک طرف کردینا۔ نَاكَبَ هُ: کے مونڈھے کے مقابل ہونا۔ تَنَكَّبَ عنه: سے ہٹنا، سے بچنا، الگ ہوجانا۔ سے کندھا موڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہونا (کہا جاتا ہے تَنَكَّبْ عن وجهي: میرے سامنے سے ایک طرف ہوجا یا کنارہ کر۔ دور ہوجا) — على الشيءِ: پر ٹیک لگانا۔ — كنانتهُ او قوسهُ: ترکش یا کمان کو کندھے پر ڈالنا۔ اِنْتَكَبَ الرجُلُ كنانتهُ او قوسهُ: ترکش یا کمان کو کندھے پر ڈالنا۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ ناكِبٌ عن الحق: حق سے منحرف مرد۔ النَّكْب (مص) جمع نُكُوب: مصیبت۔ النَّكْبَة جمع نَكَبات: نکب کا اسم مرۃ، مصیبت۔ النَّكَبُ (مص): نیم جھکاؤ، اونٹوں کی کندھوں کی بیماری۔ النَّكِب: پتھر سے زخمی پاؤں والا۔ الأنْكَب: کندھے کی بیماری والا اونٹ، جس کا ایک کندھا دوسرے سے اونچا ہو۔ گستاخ، ظالم۔

رجُلٌ انكبُ عن الحق: حق سے منحرف۔ النَّكْبَاء جمع نُكْب و نَكْباوات: انکب کا مونث۔ ريحٌ نَكْبَاءُ: ٹیڑھا چلنے والی ہوا۔ النُّكَيْبَاء: شمالی مشرقی ہوا۔ النَّكِيب: کمر کا گرداگرد۔ المِنْكاب: گستاخ، ظالم۔ رجُلٌ مِنكابٌ عن الحق: حق سے منحرف مرد۔ المَنْكِب جمع مَنَاكِب (غ ا): کندھا، شانہ،

ہر چیز کا پہلو، جانب، سِرنا في مَنكِبٍ من الارض او الجبل: ہم نے زمین یا پہاڑ کے ایک جانب سفر کیا۔ ــــ من القوم: قوم کا ماہر یا مددگار۔ ــــ من الارض: راستہ، بلند جگہ۔ (کہا جاتا ہے: امشو في مناكبها: بلند جگہوں پر چلو۔ فلانٌ مَعِيَ على حدِّ مَنكِبٍ: فلاں شخص جب بھی مجھے دیکھتا ہے، اپنا رخ بدل لیتا ہے۔ میرا سامنا نہیں کرتا۔ تشابهت منهم المناكِبُ والرؤوسُ: ان میں کوئی بھی پسندیدہ نہیں هَزَّ منكبه لكذا: وہ اس بات پر خوش ہوا۔ مَنكِبُ الجوزاء و منكبُ ذی العِنان و مَنكِبُ الفرس (فلک): ستاروں کے نام۔ المَناكِب: مَنكِب کی جمع ــ في ريش الطائر: پرندے کے چار چھوٹے پر۔ اس کا واحد نہیں آتا۔ المَنكُوب (مفع): مصیبت زدہ۔ پتھر سے زخمی پاؤں والا۔

۲۔ الأَنكَب: بغیر کمان شخص۔ النُّكبة جمع نُكَب: بے اندازہ غلہ کا ڈھیر۔ النُّكُوب: بکریوں کا گوبر جو بہت پرانا ہو۔

○ نَكَبَ ـــ نَكْبًا و نَكْبَةً: کو ناشاد کرنا، خستہ حال، مفلوک الحال، بیزار و نزار کرنا۔ تکلیف میں ڈالنا، پریشانی میں مبتلا کرنا، مصیبت پہنچانا، مغموم کرنا۔ ــــ ہ: کو گرا دینا۔ ــ ہ: کو بے سہارا کرنا۔ نُكُوبًا: (ہوا) کا پہلو کی جانب سے چلنا، رخ بدلنا۔ ــــ نَكْبًا و نُكُوبًا عن: سے انحراف کرنا، منحرف ہونا، ہٹنا، تجاوز کرنا (جیسے راستہ، سڑک وغیرہ سے) نَكَّبَ ہ: کو ہٹانا، پھیرنا، رخ پلٹنا، موڑنا، منحرف کرنا، تَنَكَّبَ ہ / عن: سے منحرف ہونا، سے انحراف کرنا، سے پہلو تہی کرنا، پہلو بچانا، بچنا، کنی کترانا، سے الگ رہنا، باز رہنا، پرہیز کرنا۔ ــــ عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، سے پرے ہٹ جانا۔ ــ ہ: کی ذمہ داری لینا، کو ذمے لینا، تَنَكَّبَ به عن: کو سے منحرف کرنا۔ نَكْب جمع نُكُوب و نَكْبة: مصیبت، آفت، بدبختی، بدنصیبی، بدبختی، بلائے ناگہانی۔ مَنكِب جمع مَناكِب: کندھا، پہلو، جانب، بلند زمین۔ دَفَعَ بِمَنكِبَيْهِ الهواء: تیزی سے جانا، جلدی کرنا۔ مَنكُوب: مصیبت زدہ، ناشاد، بدقسمت، بدنصیب، مفلوک الحال، خستہ حال، کسی بلائے ناگہانی کا شکار۔

نکت: نَكَتَ ـُ نَكْتًا الارض بقضيب او باصبعه: غور و فکر کی حالت میں زمین کو لکڑی یا انگلی سے کریدنا۔ ــ الناسُ بالحصى: لوگوں کا زمین پر کنکر پھینکنا۔ ــ الفرسُ: گھوڑے کا اچھلنا، کہا جاتا ہے۔ مَرَّ الفرسُ ينكُتُ: گھوڑا اچھلتے ہوئے گزرا۔ ــــ العظمَ: ہڈی کا گودا نکالنا۔ ــ فلانًا: کو سر کے بل گرانا اسی سے ہے۔ لَأَنكُتَنَّ بكَ الأرضَ: میں تمہیں سر کے بل زمین پر گراؤں گا۔ ــ كِنانتَهُ: ترکش کو بکھیر دینا۔ تمباکو نوش کہتے ہیں: نكتَ نفَسَ التنبك او الغليون او المنفضة: اس نے تمباکو، حقہ یا خاکستر دان سے راکھ جھاڑی۔ نَكَّتَ الرُّطَبُ: کھجور کا سرخی پکڑنا۔ ــ في قوله: کی ہنسی اڑانا۔ ــ عليه: پر نکتہ چینی کرنا، کی عیب جوئی کرنا۔ اِنتَكَتَ فلانٌ: کا سر کے بل گرنا۔ النُّكتة جمع نُكَت و نِكات: داغ۔ زمین پر کریدنے کا نشان۔ آئینہ یا تلوار وغیرہ پر لگی گندگی سی، کلام کی باریکی، لطیفہ۔ النَّكّات: بڑا نکتہ چین۔ گفتگو میں نکتے لانے والا۔ النَّكِيت: بدنام، جس کی ساکھ ختم کی گئی ہو۔ المَنكُوت (مفع): سر کے بل گرایا ہوا۔

○ نُكتة جمع نُكَت و نِكات: داغ، دھبا، نشان، ظرافت بھری، پرلطف بات، پھبتی، لطیفہ، فقرے بازی، مذاق، ہنسی نقل، مزاحیہ ابہام، لفظوں سے ہاتھ کرنا، مذاق کی اصل بات۔ حاضر النكتة: فقرے باز، حاضر جواب نَكّات: بذلہ سنج، پرلطف، ظرافت بھرا، خوش طبع، دلچسپ ہنسانے والا، ہنسی اڑانے والا، مذاق اڑانے والا، تحقیر آمیز الفاظ استعمال کرنے والا۔ مُنَكِّت: ہنسی اڑانے والا، مذاق اڑانے والا۔ تحقیر آمیز الفاظ استعمال کرنے والا۔ تنكيت: فقرے بازی کرنا، پھبتی کسنا، بیوقوف بنانا، ایذا دینا، چھیڑ چھاڑ، دل لگی، ہنسی مذاق، چہل، مذاق، ہنسی اڑانا۔

نکث: ا۔ نَكَثَ ـِ نَكْثًا العهدَ او البيعَ: عہد یا بیع توڑنا، فسخ کرنا۔ ــ الحبلَ او الكساءَ: رسی یا لباس کھولنا۔ ــ السواكَ: مسواک کے سرے کو نرم کرنا۔ تَناكَثَ القومُ عهودَهم: لوگوں کا اپنے عہد توڑ دینا۔ اِنتَكَثَ الحبلُ وغيرُهُ: رسی وغیرہ کا کھلنا۔ السواكُ: مسواک کے سرے کا نرم ہونا۔ ــــ فلانٌ مِن حاجةٍ إلى أخرى: ایک کام سے ہٹ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہونا۔ النِّكث جمع أَنكاث: دوبارہ کاتنے کیلئے ادھیڑا ہوا کمبل یا خیمہ۔ حَبلٌ نِكثٌ و انكاثٌ: ادھیڑی ہوئی رسی۔ النُّكاثة: رسی کا کھلا ہوا حصہ۔ النَّكّاث: پرانی بنی ہوئی یا بٹی ہوئی چیز کو ادھیڑنے والا۔ النَّكِيث م نَكِيثة: ادھیڑا ہوا۔ النَّكِيثة جمع نكائث: مشکل کام، جس میں لوگ اپنے عہد توڑ ڈالیں، (کہا جاتا ہے: وقعوا في النكيثة: وہ مشکل کام میں پھنس گئے جس میں عہد توڑنے پڑ جائیں۔ قال قولاً لانَكِيثةَ فيه: اس نے ایسی بات کہہ دی جس میں وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔ بعيرٌ مُنتَكِثٌ: دبلا اونٹ جو پہلے موٹا ہو۔

۲۔ النُّكاث: اونٹوں کے موہنوں میں نکلنے والی پھنسیاں۔ النَّكِيثة جمع نَكائِث: نفس، طبیعت، ۔ (کہا جاتا ہے: هو ذو نَكِيثةٍ حَسَنةٍ: وہ اچھی طبیعت والا ہے) قوت، پوری پوری کوشش، کہا جاتا ہے: صَرَفَ فيه نَكِيثتَهُ: اس نے اس میں انتہائی کوشش کی۔

○ نَكَثَ ـــ نَكْثًا (ہ): (عہد یا اسی جیسا کوئی قانونی فرض) توڑ ڈالنا، کی خلاف ورزی کرنا۔ سے انحراف کرنا، تجاوز کرنا۔ اِنتَكَثَ: ٹوٹ جانا، کی خلاف ورزی ہونا۔ نَكْث: (عہد وغیرہ کی) خلاف ورزی، عہد شکنی وغیرہ۔ ناكِث: بیوفا، غدار، نمک حرام۔

نکح: ا۔ نَكَحَ ـِ نِكاحًا و نَكْحًا المرأةَ: عورت سے نکاح کرنا۔ ــ تِ المرأةُ: عورت کا منکوحہ ہونا، شادی شدہ ہونا، صفت ناكِح و ناكِحة: (یعنی شوہر والی)۔ المطرُ الارضَ: بارش کا زمین کی مٹی میں جذب ہو جانا۔ ــ الدواءُ فلانًا: پر دواء کا اثر کرنا، میں سرایت کرنا، کو زیر کرنا۔ ــ النعاسُ عينَهُ: نیند کا آنکھوں پر غالب آنا، أَنكَحَهُ المرأةَ: کی عورت سے شادی کرانا، کا عورت سے نکاح کرانا۔ تَناكَحَ القومُ: ایک دوسرے سے شادی کرنا۔ ــــ ت الأشجارُ: درختوں کا آپس میں مل جانا۔ اِستَنكَحَ الرجُلُ المرأةَ: مرد کا عورت کو نکاح میں لانا، سے شادی کرنا۔ ــــ في بني فلانٍ: کسی قبیلہ میں شادی کرنا۔ ــــ النومُ عيونَهم: کی آنکھوں پر نیند کا غالب آنا۔ المَناكِح: عورتیں۔

۲۔ النِّكِّيح: بہت چوکنا (عام زبان میں)

○ ناكَحَهُ: شادی کی وجہ سے کسی کا رشتہ دار ہو جانا۔ نِكاح: شادی، شادی کا معاہدہ یا عہد نامہ، شادی شدہ ہونا۔ متاہل زندگی۔ تاہل

نکخ: نَكَخَ ـَ نَكْخًا فلانًا في حلقه: کے حلق پر مکا مارنا۔

نکد: نَكَدَ ـُ نَكْدًا فلانًا حاجتَهُ: کو اس کی حاجت سے روک دینا، محروم کرنا، یا اس میں سے تھوڑا سا دینا۔ ــــ الغرابُ: کوّے کا بہت کائیں کائیں کرنا۔ ــــ القومُ الرجُلَ: کو لوگوں کا سوالوں کی کثرت سے تنگ دست کر دینا۔ نَكِدَ ـَ نَكَدًا العيشُ: گزران کا تنگ ہونا۔ ــ الرجُلُ: تنگ گزران والا ہونا۔ ــ تِ البئرُ: کنویں کا پانی کم ہو جانا۔ نَكِدَ الرجُلُ: بہت سوالوں اور کم بھلائی والا ہونا۔ نَكَّدَ عيشَهُ: کی زندگی کو تنگ کر دینا، ــــ فلانًا: کی زندگی دشوار بنا دینا۔

نَاکَدَہٗ: کوتکلیف دینا، سے سختی برتنا۔ انکَدَہٗ:کوکم خیر پانا۔ تَنَکَّدَ عیشُہٗ:کی زندگی مکدر ہونا۔ تَنَاکَدَا: ایک دوسرے سے سختی برتنا۔ النَاکِدجمع نُکَّد (فا)۔ (نَاقَۃٌ نَاکِدٌ: کم دودھ والی اونٹنی) وہ عورت جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ النَکَد: کم دادودہش۔ رَجُلٌ نَکُدٌجمع انکاد ومَنَاکِید: درخشت خو،کم دادودہش والا۔ النُکُد: کم دادودہش۔ ـــ واحد نَکدَاء: بے دودھ والی اونٹنیاں، بہت دودھ دینے والی اونٹنیاں (ضد)۔ مَاءٌ نُکُدٌ:تھوڑا پانی۔ رَجُلٌ نَکِدٌ ونَکَدٌ جمع انْکَادو مَنَاکِید: درشت خو،کم دادودہش والا۔ اَرَضُونَ نِکَادٌ: کم فائدہ والی زمینیں۔ الأنْکَدم نَکْدَاء،جمع نُکْد: تکلیف دہ کم دادودہش والا، کہا جاتا ہے: جَاءَ مُنکِداً: وہ آیا تواس کی آمد قابل تعریف نہ تھی۔ یا وہ مشغول نہ تھا۔ عطاءٌ مُنَکَّد:تھوڑا عطیہ۔ رَجُلٌ مَنْکُودٌ: وہ شخص جس سے سوال میں اصرار کیا جائے۔ عطاءٌ مَنکُودٌ:تھوڑا عطیہ۔

○ نَکِدَ ـــ نَکَدًا: سخت ہونا، مشکل ہونا، ناخوش ہونا، مفلوک الحال ہونا۔ نَکَدَ ـ نُکْدًا ہ: کوتھوڑا دینا، کو تکلیف پہنچانا، ستانا، دق کرنا، تنگ کرنا۔ نَکّدَہٗ: کے لئے زندگی دشوار، مشکل یا قابل نفرت بنانا، کی زندگی تلخ کرنا۔ نَاکَدَہ:کوتکلیف پہنچانا، ستانا، دق کرنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، کاناک میں دم کرنا۔ تَنَکَّد: مفلوک الحال، دشوار یا تلخ ہونا۔(زندگی کا) نَکَدجمع انْکَاد: بدبختی، بدقسمتی، دشواری، اذیت، آزاد، تکلیف، مصیبت، ادبار، افتاد، بپتا، ایذا رسانی، تکلیف دہی، وبال جان، پریشانی، تشویش۔ نَکِدجمع انْکَاد ومَنَاکِید: دشوار، تکلیف دہ، پرمشقت، محنت طلب، ناخوش، تنگ مزاج، تندخو، برافروختہ، مخالف، بدمزاج۔ انکَد: تکلیف دہ، ذہنی اذیت پہنچانے والا۔ مُنَاکَدَہ جمع مُنَاکدات: دقت، تکلیف، زحمت، دکھ، بے چینی، بے آرامی، بوجھ، مصیبت، پریشانی۔ مَنکُود: ناخوش، بدقسمت، بدنصیب، بدبخت۔ مَنکُودُ الحظّ جمع مَنَاکِید الحظ: بدنصیب، بدبخت، بدقسمت۔

نکر: ۱۔ نَکُرَ ـ نُکَارَۃً الامرُ: معاملہ مشکل، سخت یادشوار ہونا۔ نَکِرَ ـــ نَکِرًا ونُکْرًا و نُکُورًا ونَکِیرًا الامرَ: کسی امر سے ناواقف ہونا۔ ـــ الرجُلَ: کونہ جاننا۔ نَکَّرَہٗ: کوتبدیل کردینا۔ ـــ الاسمَ: اسم کونکرہ بنانا۔ نَاکَرَ مُنَاکَرَۃً: سے قتال کرنا، جنگ کرنا، کو دھوکا دینا۔ انکَرَہٗ: سے ناواقف ہونا۔ ـ حقَّہٗ: کے حق کا انکار کرنا۔ ـــ علیہ فعلَہٗ: پرعیب لگانا، کواس کے فعل سے منع کرنا۔ تَنَکَّر الرجُلُ: اچھی حالت سے نکل کر بدحال ہونا، بھیس بدلنا۔ ـــ لفُلان: کے لئے اجنبی ہونا۔ ـ فلانٌ: بدخلق ہونا۔ تَنَاکَرَ: جان بوجھ کرناواقف بننا۔ ـ الامرَ: سے ناواقف ہونا۔ ـ القومُ: ایک دوسرے سے دشمنوں یا اجنبیوں جیسا سلوک کرنا۔ اِستَنکَرَ الامرَ: سے ناواقف ہونا۔ ـ امراً یجھلُہٗ: نامعلوم امر کے بارے میں پوچھنا۔ النکر (مص): چالاکی، تیزفہمی۔ النُکُر (مص): چالاکی، تیزفہمی، سخت براکام، براکام۔ النُکُر: سخت کام، مجہول۔ رَجُلٌ نُکُرٌ: چالاک تیزفہم مرد۔ امرأۃٌ نُکُرٌ: چالاک تیزفہم عورت۔ رَجُلٌ نَکِرٌ و نَکُرٌ جمع انْکَار: چالاک، تیزفہم۔ النکَرَۃ: انکار سے اسم۔ النکِرَۃجمع نَکِرات: انکار۔ معرفۃ کی ضد۔ النَکَارَۃ (مص): چالاکی۔ تیزفہمی، جہالت۔ النُکُرَاء: چالاکی، تیزفہمی، مجہول، ناشناختہ، مصیبت، کہا جاتا ہے: فلانٌ ذونکراء: فلاں شخص چالاک تیزفہم اورعقلمند ہے۔ اصابتھم من الدھر نکراءُ: انہیں زمانہ سے سختی پہنچی۔ یاان پرزمانہ کی سختی آپڑی۔ نکراءُ الدھر: زمانہ کی سختی۔ النکِیر: تغیر، دگرگونی۔ امرٌ نکِیرٌ: سخت دشوار کام۔ حصن نکیرٌ: مضبوط قلعہ۔ المُنکَر (مفع): جمع مُنکَرات ومَنَاکِر: وہ قول یا فعل جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اس کی ضد معروف ہے۔ رَجُلٌ مُنکَرٌ: چالاک، تیزفہم۔ المُنَکَّر عند النحاۃ: اسم نکرہ (معرف کا الٹ) المَنکُور (مفع) جمع مَنَاکِیر: مجہول، ناشناختہ۔ المَنَاکِیر: ناپسندیدہ امور۔ ھم یرکبون المناکیر والمُنکَرَات: وہ لوگ ناپسندیدہ اموراور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کاموں میں مشغول ہیں۔

۲۔ النکِرۃ جمع نکِرات: خون یا پیپ کا پھوڑا۔ مُنکَر ونَکِیر: کہا جاتا ہے یہ دو فرشتے ہیں جو قبروں میں ایمان کے بارے میں مردوں کے بیان لیتے ہیں۔

○ نَکِرَ ـ نَکَرًا ونُکْرًا و نُکُورا ونکیرًا ہ/ہ: کو نہ جاننا۔ ـ ہ: سے ناواقف ہونا، کا انکار کرنا۔ کو قبول نہ کرنا، نہ ماننا۔ نکَّرہ: کا بھیس بدلنا۔ ـ ہ: اسم کو اس کی نکرہ شکل میں استعمال کرنا۔ اسم کونکرہ بنانا۔ نَاکَرَہ: کومسترد کرنا، ناپسند کرنا۔ انْکَرَ ہ/ہ: سے تعلق کا انکار کرنا۔ ـــ ہ: کو قبول یا تسلیم کرنے سے انکار کرنا، کا انکار کرنا، سے لاتعلقی ظاہر کرنا، کو ماننے یا پہچاننے سے انکار کرنا، کو اپنا کہنے سے انکار کرنا، کے علم کا انکار کرنا، کو چھوڑ دینا، سے دستبردار ہونا۔ ـــ ہ علی: کوکسی چیز کا انکار کرنا، کو کوئی چیز نہ دینا۔ کے بارے میں کسی چیز کومسترد کرنا۔ ـــ ہ علی: کو پر ملامت کرنا، کی پر مذمت کرنا، پر کا الزام لگانا، کو پر ڈانٹنا، کو پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھاڑ جھپاڑ کرنا۔ ـــ ہ من: کسی میں کسی بات پر تنقید کرنا۔ ـــ علی ہ: کو کیلئے ملامت کرنا۔ انْکرَ ذاتہ: نفس کشی کرنا۔ انکرَ نفسَہٗ: ذاتی شکوک کو دل میں رکھنا۔ أنکرتُ انی اراہ: میں نے اسے نہ دیکھنے کا بہانہ بنایا۔ تَنَکَّر: بھیس میں ہونا، بھیس بدلنا، بدتر حالت میں تبدیل ہونا، شناخت کی دسترس سے باہر تبدیل ہونا۔ ـــ ل: سے بیگانہ ہونا، کھچا کھچا رہنا، کا دل توڑنا، کو جھاڑ جھپاڑ کرنا، سے دشمنی برتنا، سے بدتمیزی یا اکھڑپن کا برتاؤ کرنا، کو اپنے دل سے روکنا۔ تَنَاکَرَ ہ: سے ناواقف ہونا، کو نہ جاننے کا بہانہ کرنا۔ ـــ: بے خبری، ناواقفی کا حیلہ کرنا، تصنع کرنا۔ ـ ہ: سے لاتعلقی کا اظہار کرنا، کا دل توڑنا، کو کاٹنا، نظرانداز کرنا، کو نہ جاننے کا بہانہ کرنا۔ استنکر ہ/ ہ: کو نہ جاننا، ـــ ہ: سے ناواقف ہونا۔ سے بے خبر ہونا، کو ناپسند کرنا، کو مسترد کرنا، سے سخت نفرت کرنا۔ نُکر: انکار، تردید۔ نَکِر: نامعلوم، گمنام، تھوڑا معلوم۔ نُکران: انکار۔ لانُکرانَ: یہ ناقابل تردید ہے۔ نُکران الجمیل: ناشکری، ناشکر گزاری، احسان فراموشی، احسان ناشناسی، ناسپاسی، نکران الذات: نفس کشی۔ نکیر: انکار۔ ناپسندیدگی، استرداد، نامنظوری، نفی، ابطال، قصوروار، قابل الزام، مخالف، خلاف طبیعت، ناگوار، نامرغوب، نفرت دلانے والا، برگشتہ کرنے والا، حقیر، ذلیل پاپی کمینہ، گھناؤنا، نفرت انگیز، مکروہ، کریہ، قابل نفرت، ظالم، نابکار، بدذات، نہایت برا۔ شدّ علیہ النکیرَ: کو سخت سرزنش کرنا۔ انْکَرم نکْراء: قصوروار، قابل الزام، قابل نفرت، نفرت انگیز، نفرت دلانے والا، متنفر کرنے والا، برگشتہ کرنے والا، حقیر ذلیل، خبیث، پاپی کمینہ، گھناؤنا، نفرت انگیز، قابل نفرت، ابتسامۃ نَکراء: شریر مسکراہٹ، کینہ پرور مسکراہٹ۔ انکارُ الذات: نفس کشی، ایثار، بے لوثی۔ تَنَکُّر: بھیس، بہروپی ناچ، محفلُ التنکر: فینسی ڈریس پارٹی، کاسٹیوم بال (fancy derss party, costume ball) حفل تنکری: مندرجہ بالامعنے۔ استنکار: ناپسندیدگی، خوف دہشت، نفرت بیزاری۔ مُنَکَّر: غیرمُعَیّن، غیرمعرف۔ مُتَنَکِّر: بھیس بدلے ہوئے، بھیس میں بھیس بدل کر (یا) کسی اور نام سے بھیس بدل کر، (یا) کسی اور نام سے سفر کرنے والا۔ رقص مُتَنَکِّر: کاسٹیوم بال (Costume ball) Masked ball (محفل

رقص میں حصہ لینے والے نقاب اوڑھے ہوتے ہیں یا انہوں نے مصنوعی چہرے لگائے ہوتے ہیں) مُستنکَر: قابلِ اعتراض، لائق ملامت، عجیب، انوکھا نرالا۔

نکز: ا۔ نَکَزَ ـُ نُکُزات الحیّةُ فلاناً: کو سانپ کا ڈسنا۔ ـــ فلاناً: کو مارنا، دفع کرنا، ہٹانا۔ ـــ الشَّیءَ: کو چھونا۔ ـــ الدابةَ بعقبه: جانور کو ایڑ سے ہانکنا۔ ـــ نَکزاً و نُکُوزاً الماءُ: پانی کا زمین میں جذب ہو جانا، چلا جانا۔ ـــ البحرُ: دریا کا خشک ہونا۔ ـــ ت البئرُ: کنویں کا پانی کم ہونا یا ختم ہونا۔ نَکِزَ ـَ نَکَزاً البحرُ: دریا کا گھٹنا۔ انْکَزَ البئرَ: کنویں کے پانی کو ختم کرنا۔ الناکِز جمع نَواکِز فا، بئر ناکِزٌ: وہ کنواں جس کا پانی ختم ہو گیا ہو۔ النِکز و المُنکِز: خالی کہا جاتا ہے: جاءَ نِکزاً و مُنکِزاً: وہ خالی آیا۔ بئر نکزٌ: تھوڑے پانی والا کنواں۔ النکّاز جمع نکاکیز و نکّازات: اسم مبالغہ۔ (ح) ایک قسم کا چھوٹے سر والا زہریلا سانپ۔ البئر النکوز جمع نُکُز: وہ کنواں جس کا پانی ختم ہو گیا ہو کہا جاتا ہے: فلانٌ بنکزٍ من العیش: فلاں شخص تنگ گزران والا ہے۔

۲۔ النِکز: رذیل لوگ۔ ہڈی میں بچا ہوا گودا۔

۞ نکزَ ـُ نکزاً: چھونا۔ ـــ ہُ: کو کسانا۔

نکس: نَکَسَ ـُ نَکساً ہُ: کو اوندھا کرنا، آگے پیچھے کرنا۔ ـــ رأسَهُ: ذلت سے سر جھکانا۔ ـــ الطعامُ وغیرہُ داءَ المریض: کھانے وغیرہ کا بیمار کے مرض کو لوٹا دینا۔ ـــ الخضاب: بار بار خضاب لگانا۔ کہا جاتا ہے: نکستُ فلاناً فی ذلک الامر: میں نے فلاں شخص کو اس معاملہ میں اس سے نکلنے کے بعد لوٹا دیا۔ نُکِسَ الرجلُ: کمزور ہونا، عاجز ہونا۔ ـــ الرجُلُ عن نظرائِه: اپنے ہم عمروں سے کوتاہی کرنا۔ ـــ المریضُ: مریض کا دوبارہ بیمار پڑنا۔ نکّس تنکیساً ہُ: کو اوندھا کرنا۔ ـــ الفرسُ: گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں سے نہ جا ملنا۔ صفت مُنکِّس۔ تنکّس: اوندھا ہونا۔ انْتکسَ: سر کے بل گرنا۔ ـــ المریضُ: مریض کا دوبارہ بیمار پڑنا۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ اِندکسَ: اور ان کے نزدیک اس کا اسم "الدکسة" ہے۔ الناکِس (فا) جمع نواکِس: (خلاف قاعدہ ہے): سر جھکانے والا۔ النِکس جمع انکاس: ٹوٹے ہوئے سرے والا تیر، کمان جس میں شاخ کے سرے کو نچلا حصہ بنائیں، کمزور، کمینہ، بے خیر آدمی، پست قد، کرم و سخاوت میں کوتاہی کرنے والا۔ النُکس: بیماری کا دوبارہ آ جانا، گر کر نہ سنبھلنا اور پھر پہلے سے زیادہ زور سے گرنا۔ کہا جاتا ہے: تعساً لفلانٍ و نُکساً او نَکساً: بددعاء کے طور پر کہنا: فلاں شخص کم بخت ہو اور گر کر نہ سنبھلے بلکہ اور زیادہ زور سے گرے۔ النُکُس۔ مفرد ناکِس: بہت بوڑھے لوگ۔ النُکاس: بیماری کا دوبارہ آ جانا۔ المُنکِّس (فا): آہستہ آہستہ چلنے والا گھوڑا جو سر نہ اٹھائے، وہ گھوڑا جو دوسرے گھوڑوں سے نہ جا ملے۔ المنکوس (مفع): دوبارہ بیمار پڑنے والا، عوام مدکوس کہتے ہیں۔ ـــ من الاولاد: وہ بچہ جس کے پیدا ہونے کے وقت سر سے پہلے ٹانگیں باہر نکلیں۔ پایل بچھوس۔ منکوسةٌ: وہ کمان جس میں شاخ کے سرے کو نچلا حصہ بنائیں۔

۞ نکَسَ ـُ نکساً ہُ: کو الٹا کرنا، اوندھا کرنا، کو نیچا کرنا، پیچھے ہٹانا، واپس لینا، اندر کھینچنا، نکس رأسَهُ او بر أسِه: سر کو جھکانا، کو اک طرف جھکانا۔ ـــ ہُ: بیماری میں دوبارہ مبتلا کرنا۔ نُکِسَ: بیماری میں دوبارہ مبتلا ہو جانا۔ نکّسَ: بمعنی نکس نیز نکّسَ ہُ: پرچم (جھنڈے) کو سرنگوں کرنا۔ اِنتکسَ: الٹنا، اوندھا ہونا، سر کا جھکنا، گئی ہوئی بیماری میں فوراً مبتلا ہو جانا۔ نُکس و نکسة: گئی ہوئی بیماری کا پھر لگ جانا۔ پستی۔ ذلت، کمی، کم ہمتی، خفت ابتدائی، انحطاط، تنزل، زوال، تنکّس: نسلی بگاڑ۔ اِنتکاس: گئی ہوئی بیماری کا پھر آنا، بیماری کا عود کرنا۔ مَنکوس: الٹا کیا ہوا، اوندھا کیا ہوا، بیماری میں دوبارہ مبتلا۔ مُنکّس: الٹا یا اوندھا کیا ہوا۔ مُنکّس الرأس: سر جھکائے ہوئے۔ مُنتکِس: گئی ہوئی بیماری میں فوراً مبتلا ہونے والا۔ عود کرنے والی (بیماری میں مبتلا)۔

نکش: نکَشَ ـِ نکشاً البئرَ: کنویں کی مٹی نکالنا۔ ـــ الشَّیءَ: کو فنا کرنا۔ ـــ الشیءَ و مِن الشیءِ: سے فارغ ہونا، کو ختم کرنا۔ ـــ الارضَ: زمین کو کھرپنا، الٹنا پلٹنا (اسے رکشھا بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں عام زبان کے لفظ ہیں)۔ اِنتکشَ البئرَ: کنویں کی مٹی نکالنا۔ المِنکَش: معاملات میں غور کرنے والا۔ المِنکاش جمع مَناکیش: کنواں صاف کرنے کا آلہ۔ المنکوش مفع سفطٌ منکوشٌ: ٹوکرا جس کی سب چیزیں نکال لی گئی ہوں۔

۞ نکَشَ ـِ نکشاً ہُ: کسی چیز کو خصوصاً کنویں کو صاف کرنا، کنویں سے کیچڑ نکالنا۔ ـــ ہُ: زمین کی ترائی کرنا، تلائی کرنا، کھرپنا، گوڈنا، اکھاڑنا، جندر سے صاف کرنا، کھودنا، جوتنا، میں ہل چلانا۔ ـــ ہُ: کی تلاش کرنا، کو ڈھونڈنا، چھان مارنا، تاخت و تاراج کرنا۔ ـــ ہُ: کو بے ترتیب کرنا، ابتر کرنا، خراب کرنا، نوچنا، کھونٹا، بکھیر دینا۔ ـــ ہُ: درخت ہلانا۔ مِنکَش جمع مَناکِش: پھاوڑا، کدال، بیلچہ، کھرپا، جیلی، کریدنی۔ مِنکاش جمع مَناکیش: دریا صاف کرنے والی کشتی، آگ کریدنی۔ تبر، کدال، کلہاڑی۔

نکص: نَکَصَ ـُ نُکصاً و نُکوصاً و مَنکَصاً عن الامر: سے رکنا، باز رہنا، صفت ناکِص۔ ـــ علی عقبیه: پیچھے ہٹنا، بلند پروازی چھوڑ دینا، مزاج ٹھکانے لگنا، ارادہ ترک کر دینا۔ نکّصَ ہُ: کو ہٹا دینا۔ اِنتکصَ الرجُلُ: ایڑیوں کے بل لوٹنا۔ المَنکَص: ہٹنے کی جگہ۔

نکظ: ا۔ نَکِظَ ـَ نَکَظاً فلاناً عن حاجته: سے کے بارے میں جلدی کرانا۔ نکِظَ ـَ نکَظاً: اپنی حاجت میں جلدی کرنا۔ ـــ للخروج: نکلنے کے لئے جلدی کرنا۔ الرحیلُ: کوچ کا وقت قریب آنا۔ نکّظَ ہُ عن حاجته: پر کے بارے میں جلدی کرانا۔ انکَظَ ہُ عن حاجته: سے کے بارے میں جلدی کرانا۔ النُکظ و النَکَظ و النُکظة و النَکَظة و المَنکَظة: جلدی۔

۲۔ نکِظَ ـَ نکَظاً: بہت بھوکا ہونا۔

۳۔ نکّظ حاجتَهُ: کو مشکل بنانا۔ تنکّظَ الرجلُ: کی سفر میں حالت سخت ہونا۔ ـــ علی فلان: سے بخل کرنا۔ ـــ الامرُ علیه: پر معاملہ مشکل و پیچیدہ ہونا۔ النکظ و النَکَظ و النُکظة و النَکظة و المَنکظة: کوشش، سفر کی سختی۔

نکع: ا۔ نَکَعَ ـَ نَکعاً ہُ عن الامر: کو سے دور کرنا، کو سے جلدی سے ہٹانا، کو سے باز کرانا۔ ـــ فلاناً حقَّهُ: کا حق روک لینا۔ ـــ فلاناً: کو پاؤں کی پشت سے مارنا۔ ـــ نکعاً و تنکاعاً فلانٌ عن الحاجة: سے باز رہنا، بچنا۔ ـــ الماشیة: مویشی کے تھن کو مار کر دودھ نکالنا۔ کہا جاتا ہے: ما نکَعَ: کرتا رہنا۔ ما نکَعَ یفعله: وہ اسے کرتا رہا۔ ما ادری این نکع: میں نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا۔ نکّعَ ہُ عن حاجته: کو حاجت سے ہٹا دینا، کی جلد بازی سے زندگی بے مزہ کرنا۔ انکعَ ہُ: کو رد کرنا، دفع کرنا، تھکانا۔ ـــ ہُ عن الامر: کو جلدی کرا کر معاملہ سے ہٹانا، باز رکھنا۔ ـــ ت فلاناً بُغیتُهُ: کا مطلب فوت ہو جانا، کہا جاتا ہے: تکلّمَ فأنکعَهُ: اس نے بات کر کے اس کو خاموش کر دیا۔ شرب فانکعَهُ: اس نے پی تو شراب نے اس کا مزہ کرکرا کر دیا۔ النُکَعة: بیوقوف جو بیٹھ کر جم جائے۔ المُنکَع: پیچھے لوٹنے والا انفٌ مُنکَعٌ:

چپٹی ناک۔

۲۔ نَکِعَ ۔۔ نَکَعًا: سرخ فام چھلی ہوئی ناک والا ہونا۔ النَّکِع: سرخ فام چھلی ہوئی ناک والا۔ احمرُ نکِعٌ: بہت سرخ۔ النَّکَع: سرخ رنگ سرخی مائل سیاہ رنگ مرد۔ نکَعَةُ الانف: ناک کا کنارہ۔

النُّکَعَة: سرخ رنگ ناک چھدا مرد، ناک کا کنارہ، سرخ رنگ کے درخت کا پھل، قتاد نامی درخت کا گوند، انسان کی سرخی ملی ہوئی سیاہی۔ الأَنکَع: سرخ فام نک چھدا آدمی۔

نکف: ا۔ نَکِفَ ۔ نَکَفًا عن کذا: پر ناک بھوں چڑھانا، سے باز رہنا، الگ ہونا، صفت: نَاکِف۔ نَکَفَ ۔ نَکفًا منه او عنه: پر ناک بھوں چڑھانا، سے باز رہنا، بیزار ہونا۔ الرجُلُ: حلق کے درد سے جبڑے کی دو آگے کو نکلی ہوئی ہڈیوں والا ہونا ۔۔ تِ الیدُ: ہاتھ میں درد ہونا۔ نَکِفَتِ الابلُ: اونٹوں کے جبڑوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں ظاہر ہونا۔ انْتَکَفَ هُ: کو پاک کرنا۔ اللّٰهَ: اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ اِنتکَفَ الرجُلُ: بیزار ہونا۔ استَنکفَ الرجُلُ: تکبر کرنا۔ من کذا: سے تکبر اور کتر پن کی وجہ سے باز رہنا۔ رجُلٌ نِکْفٌ: حقارت سے دیکھا جانے والا مرد۔ النَّکَف (مص) واحد نکَفَة: جبڑے کی جڑ میں چھوٹے چھوٹے غدود۔ النَّکَفَة: کان کا درد۔ النُّکفتان و النَّکَفتان جمع نکفات: جبڑے کی دو آگے نکلی ہوئی ہڈیاں۔ النُّکاف (طِب): اونٹ کے حلق کا ایک مرض جس سے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ بچوں کی جبڑے کی جڑ میں کان کی لو کے قریب غدودوں کے بڑے ہو جانے کی بیماری عام لوگ اسے ابُو کُعَیْب کہتے ہیں۔ المَنْکُوف (مفع): نکاف کی بیماری والا۔

۲۔ نَکَفَ ۔ نُکفًا فلانٌ الغیثَ: کسی سے بارش کا منقطع ہونا۔ هذا غیثٌ لاینکفُهُ احدٌ: اس بارش کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ کب رکے گی۔ غیثٌ لایُنکَف: لگا تار بارش جیش او بحر لایُنکف: بے شمار فوج۔ بے پایاں سمندر ۔۔ الدمْعَ: انگلی سے آنسو رخسار سے صاف کرنا۔ ناکفَ مُناکَفَةً هُ الکلامَ: کو ترکی بترکی جواب دینا۔ تناکفُوا الکلامَ: آپس میں باری باری سے گفتگو کرنا۔ اِنتکفَ الغیثُ: سے بارش کا منقطع ہونا ۔۔ القومُ: قوم کا ایک ملک سے دوسرے ملک میں نکل جانا ۔۔ الیه: کی طرف مائل ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ انتکفتُ له فضربتهٗ: میں نے اس کی طرف جھک کر اس کو چوٹ لگائی ۔۔ الحبلُ: رسی کا کھل جانا ۔۔ العَرَق عن جبینه: پیشانی سے پسینہ پونچھنا۔

○ نَکَفَ ۔ نُکفًا ه: کو روکنا، کی رفتار و ترقی روکنا ۔۔ عن: کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، توجہ کے لائق نہ سمجھنا، گھٹیا یا برا جاننا، حقیر سمجھنا، کو ٹھکرانا، پر لات مارنا، کو مسترد کرنا۔ لایُنکَف: بہت دلکش، نا قابل مزاحمت، بہت زور دار، لامحدود، بے حد، بے پایاں، اتھاہ۔ نَاکَفَ ه ه: کو سے پریشان کرنا، کو سے اذیت دینا، کو سے دق کرنا، کو سے ناک میں دم کر دینا، کو سے برہم کرنا، کو سے تکلیف دینا، کو کی زحمت دینا۔

استنکف: مغرور و متکبر ہونا ۔۔ من عن: بمعنی نَکَفَ عن: یعنی کسی چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھنا وغیرہ، سے بیزار ہونا، متنفر ہونا، سے سخت نفرت کرنا۔

استنکف ه: سے بیزار ہونا، متنفر ہونا، سے سخت نفرت کرنا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ۔۔ أن: کچھ کرنے سے باز رہنا، احتراز کرنا۔ نَکَفَة: کان کے پاس کا غدود۔ نَکَفی: کان کے پاس کا۔ التهابُ الغدة النکفیة: کان کے پاس کے غدود کا ورم، آماس، سوزش یا جلن۔ نُکَاف: گلے کا ایک مرض کنٹھ مالا، غدودوں کا ورم۔

نکل: ا۔ نَکَلَ ۔ نُکُولاً عن کذا او من کذا: سے پیچھے ہٹنا، رکنا، باز رہنا، کچھ کرنے سے بہت بزدلی کرنا، کہا جاتا ہے: نَکَلَ عَن العدُوِّ و عن الیمین و عن الجواب: اس نے دشمن کے مقابلہ میں قسم یا جواب میں سخت بزدلی دکھائی ۔۔ نُکْلَةً بفلانٍ: کو عبرت ناک سزا دینا۔ نَکِلَ ۔ نَکَلاً عن کذا و من کذا: سے پیچھے ہٹنا، باز رہنا یا کچھ کرنے میں سخت بزدلی دکھانا ۔۔ نَکْلاً: سزا قبول کرنا۔ نکَّلَ بهٖ: پر مصیبت نازل کرنا، کو عبرت ناک سزا دینا ۔۔ هُ عن الشئِ: کو سے باز رکھنا، یکسو کرنا۔ انْکَلَ هُ عنه: کو سے ہٹانا، دور کرنا۔ النَّاکِل (فا): کمزور بزدل۔ النِّکْل جمع انْکَال ونُکُول: مضبوط بیڑی، لگام کا لوہا، مہار کہا جاتا ہے: فلانٌ نِکْلُ شرٍّ: فلاں شریروں کا تازیانہ ہے۔ النِّکْل: قوی مرد، ہمسروں پر غالب ہونے والا۔ مضبوط سدھایا ہوا گھوڑا، کہا جاتا ہے: فلانٌ نَکَلُ شرٍّ: فلاں شخص شریروں کا تازیانہ ہے۔ النُّکْلَة: عبرتناک سزا، کہا جاتا ہے۔ رَمَاهُ بِنُکْلَةٍ: اس نے اسے سخت سزا دی۔ النَّکَال: عبرت ناک سزا۔ تنبیه۔ المُنَکَّل: عبرت ناک سزا۔ المِنکَل: سزا کا سامان۔

۲۔ النِّکل ۔ نکل (Nickel) ایک قسم کی سفید دھات

○ نَکَلَ ۔ نُکُولاً و نَکِلَ ۔ نَکَلاً من یا عن: سے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹنا، دبکنا، سے پہلو تہی کرنا، سے کنی کترانا، سے گریز کرنا، سے باز رہنا، سے پیچھے ہٹنا، نَکَلَ نَکْلَةً و نکَّلَ ب: کو دوسروں کے لئے تازیانہ عبرت بنانا، کو سخت سزا دینا، کو سبق سکھانا ۔۔ سے سختی کرنا، بدسلوکی کرنا، برا برتاؤ کرنا، کو سخت اذیت پہنچانا۔ نَکَّلَ و انْکَلَ ه عن: کو سے دور کرنا، دھکیلنا، کو سے پیچھے ہٹانا، کو سے پسپائی پر مجبور کرنا، کو سے پرے رکھنا، کی سے روکنے کیلئے دل شکنی کرنا۔ نِکْل جمع انْکَال و نُکُول: بیڑی، ہتھکڑی، سنگلی، لگام کا دہانہ۔ نَکَال: عبرت ناک سزا، تنبیہ، تنبیہی نمونہ۔

تَنْکِیل: عبرت ناک سزا، پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا، پسپائی پر مجبور کرنا، حدود کے اندر رکھنا، برا سلوک، اذیت دہی۔

نکم: النکمَة: بھاری مصیبت، مصیبت۔

نکه: ا۔ نَکَهَ ۔ نَکْهًا لفلان و علیه: کے چہرے پر سانس لینا، پھونک مارنا ۔۔ نَکْهًا هُ: کے منہ کی بو سونگھنا۔ نَکِهَ ۔ نَکَهًا هُ: کے منہ کی بو سونگھنا ۔۔ الرجلُ: کے منہ کی بو کا بدہضمی کی وجہ سے متغیر ہونا۔ اِسْتَنْکَهَ هُ: کے منہ کی بو سونگھنا، کو منہ کی بو سونگھنے کا حکم دینا۔ اِستنکَهتُ الرجلَ فنکَهَ فی وجهی: میں نے اس مرد کو سانس لینے کا حکم دیا تو اس نے میرے چہرے پر سانس لیا۔ النَّکْهَة: ایک مرتبہ سانس لینا۔ منہ کی بو۔

۲۔ نَکَهَ ۔ نُکُوهًا الشمسُ: سورج کی گرمی کا سخت ہونا۔

○ نکْهَة: سانس کی بو، خوشبو، سنت، بو۔

نکی: نکَی یَنْکِی نِکَایَةً العدُوَّ و فی العدُوِّ: دشمن کو قتل اور زخمی کر کے اس پر غالب آنا۔ صفت فاعلی: ناک صفت مفعولی مَنْکِیّ۔ القرحةَ: زخم کو اچھا ہونے سے پہلے چھیلنا۔ نَکِیَ یَنْکَی نَکًی: شکست کھا جانا، مغلوب ہونا۔

○ نکی، نِکایَةً: نقصان کرنا، نقصان پہنچانا ۔۔ هُ/ فی: کو زخمی کرنا، تکلیف پہنچانا۔ ب: کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، دق کرنا، برہم کرنا، کے دل کو ٹھیس پہنچانا۔

نِکَایَة: ظلم، تکلیف، نقصان، میلان خاطر، پریشانی، پریشان کن بات، برہمی، جھنجھلاہٹ، شکایت، وجہ شکایت، جذبات کو پہنچائی جانے والی ٹھیس، انتہائی ظلم، قانونی حیلہ جوئی، حیلہ بازی، پر فریب استدلال۔ نِکَایَةً فیه: کی حکم عدولی یا نافرمانی میں، کو کینہ سے نقصان پہنچانے یا کو نیچا دکھانے کے لئے۔ اَغْلَظَ

فیہ النکایۃ: کو سختی سے گھیر لینا، نرغے میں لینا، کا محاصرہ کرنا، پر ٹوٹ پڑنا، سے سختی کا سلوک کرنا، سے برتاؤ میں ہمدردی، کو قریب نہ پھٹکنے دینا۔ انکی: بدتر، زیادہ نقصان دہ، زیادہ مضر، زیادہ ضرر رساں، زیادہ سختی سے تکلیف پہنچانے والا یا زیادہ سختی، جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا۔

نل: النُلُل: کمزور بوڑھا۔

نمّ: ا۔ نمّ ـــ ِ/ ـُ نمًّا الحدیثَ چغل خوری کرنا۔ ـــ الحدیثُ بات ظاہر ہونا۔ ـــ الشیُٔ: کی خوشبو پھیلنا۔ ـــ ت الریحُ ہوا کا خوشبو یا زندگی کی حرکت لانا۔ ـــ بین الناس لوگوں کو بھڑکانا۔ ـــ الکلام: کلام کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔ النامّ جمع نُمّام: فا۔ النامّۃُ نامّ کا مونث۔ حرکت، حس، زندگی، جان، کہا جاتا ہے: اسکتَ اللّٰہُ نامَّتَہُ: اللہ تعالیٰ نے اسے موت سے ہمکنار کیا۔ النَمّ (مص) جمع نُمُون وانِمّاء ونُمّ چغلخور۔ النَمَّۃ نمّ کا اسم مرۃ۔ نمّا مونث، کہا جاتا ہے۔ سمعتُ نَمَّتَہُ میں نے اس کی آواز سنی۔ النِمَّۃ نمّ کا اسم نوع۔ النمَم چغلخوری۔ النّمام واحد نمّامۃ چغلخور (ن) ایک خوشبودار پودہ۔ النَمُوم: چغلخور۔ النَمِیّ دشمنی، خیانت، عیب۔ (کہا جاتا ہے: ما فی الدار نَمِیّ: گھر میں کوئی نہیں) طبیعت، انسان کا جوہر اور اس کی اصل۔ نَمِیّ الرجل مرد کی طبع۔ النَمِیَّۃ: نمی کا واحد۔ طبیعت۔ النمیم و النمیمۃ جمع نمائم چغلخوری، حرکت، لکھنے کی آواز، لکھائی، گفتگو کی بھنبھناہٹ۔ المِنَمّ: چغلخور۔

۲۔ النَمَّۃ: سیاہی میں سفیدی یا سفیدی میں سیاہی کی جھلک یا چمک۔ النِمَّۃ جوں النُمیّۃ فاختہ۔

۳۔ نَمْنَمَ کو مزین منقش کرنا۔ ـــ ت الریحُ الرملَ او الماءَ ہوا کا ریت یا پانی کو دھاریدار بنانا۔ ـــ کتابۃً: کتاب (کا خط) باریک لکھنا۔ النِمنِم: ریت یا پانی پر ہوا کی بنائی ہوئی دھاری۔ ـــ والنُمنُم: واحد نِمنِمۃ و نُمنُمۃ جوانوں کے ناخنوں پر کی سفیدی۔ النَمنَمۃ (ف ج) ایک صفحہ پر یا ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کے کسی صفحہ پر عمدہ تصویر کشی۔ النُمنُیم: مٹی یا پانی پر ہوا کی بنائی ہوئی دھاری۔ المُنَمنَم نقش دار کتاب۔ ـــ عند العامۃ عمدہ اور چھوٹی سوزن کاری کیا ہوا۔ ثوبٌ مُنَمنَم دھاریدار اور نقش دار کپڑا۔ نبتٌ مُنَمنَم آپس میں الجھی ہوئی نباتات۔ کتابٌ مُنَمنَم: منقش کتاب۔ ناقۃ مُنَمنَمۃ فربہ اونٹنی۔ وجہٌ مُنَمنَم تیکھے نقوش والا چہرہ۔ جاریۃ مُنَمنَمۃ تیکھے نقوش والی لڑکی۔ المُنَمنِم: تصویر کشی کرنے والا۔ المُنَمنِمۃ (ف ج) نقش و نگار (صفحہ یا ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کے)

○ نمّ ـــ ُ عن/ علی: کو ظاہر کرنا، افشا کرنا، دکھانا، کا ثبوت ہونا، پر دلالت کرنا۔ ـــ عن: کی گواہی دینا۔ ـــ ہ علی: کے بارے میں ہتک آمیز انداز میں کسی بات کی اطلاع دینا۔ ـــ بین: کے مابین اختلاف رائے، ان بن، نزاع یا نا اتفاقی کا بیج بونا۔ نمّ: بہتان، تہمت، اتہام، افترا، افترا پردازی، بہتان تراشی، جمع نُمُون و انِمّاء چغلخور، بدگو، مفتری، تہمت تراش، بدنام کرنے والا، بدنامی کی باتیں پھیلانے والا، طوفان اٹھانے والا۔ نَمَّۃ: جوئیں ڈینگر، چلوا۔ نَمّام: پودینہ کی ایک قسم، تہمت تراش، مفتری، بدنام کرنے والا، طوفان کھڑا کرنے والا۔ نَمِیمۃ جمع نمائم: بہتان، تہمت، اتہام، رسوائی، ہتک، ازالہ حیثیت عرفی، افترا، بدگوئی۔ نامّۃ ہل چل، کھلبلی، زندگی، سرگرمی، تگ و دو، دوڑ دھوپ۔ مُنَمنَمۃ: چھوٹی تصویر، چھوٹی مورتی، مختصر تصویروں کی نقاشی، چھوٹے پیمانے کی مختصر تصویر یا نقشہ۔

نما: النمء و النماء چھوٹی چھوٹی جوئیں۔

نمر: ا۔ نَمَرَ ـُ نَمْرًا فی الجبل پہاڑ پر چڑھنا۔

۲۔ نَمِرَ ـــَ نَمَرًا الرجلُ غضبناک و بدخلق ہونا۔ ـــ السحابُ بادل کا چیتے کے رنگ کا ہو جانا۔ نَمَّرَ تنمیرًا غضبناک ہونا، بدخلق ہونا۔ ـــ وجھَہُ: چہرے کو ترش رو کر دینا، ناک بھوں چڑھانا، تیوری چڑھانا۔ تنمّرَ غضبناک ہونا، بدخلق ہونا۔ رنگ یا خلق میں چیتے کی طرح ہونا، دھمکی دیتے وقت آواز بلند کرنا۔ ـــ لفلان پر بگڑنا، خفا ہونا۔ النامِرۃ والنامُورۃ بھیڑیا وغیرہ شکار کرنے کے لئے لوہے کا کانٹا۔ النامُور خون۔ النمِر و النِمْر و النُمُر جمع انْمُر و انْمار و نُمْر و نِمار و نِمارۃ و نُمُور و نُمُورۃ و نُمُر (ح) چیتا۔ اس کی کنیت۔ ابو الاسود و ابو الابرد ہے۔ اور بھی کنیتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے: لبسَ فلانٌ لفلانٍ جلدَ النمر فلاں نے فلاں کا دل توڑ دیا، وہ اس سے برگشتہ ہو گیا، بیگانہ ہو گیا۔ النمرۃ جمع نُمَر داغ کہا جاتا ہے: بہ نُمرۃٌ من غیر لونہ اس پر اس کے رنگ سے مختلف رنگ کا داغ ہے۔ النَمِرۃ جمع نَمِر چیتے کی مادہ، ایک دوسرے سے ملے ہوئے بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ ـــ جمع نِمار ریشمی شال یا چادر یا کھیس سیاہ سفید دھاریوں والی اون کی چادر، سرخ یا پیلے حاشیہ کی سیاہ چادر، لوہے کا کانٹا جس میں گوشت لگا کر شکار کرتے ہیں۔ سیاہی و سفیدی۔ الانمَر جمع نُمر: نَمراء جمع نُمْر سیاہ و سفید داغ والا۔ ـــ من الخیل و النعم: سفید و سیاہ دھبوں والا گھوڑا، اونٹ یا مویشی، مختلف رنگ کے بادل۔ اَسَدٌ انمرُ بھورے اور کالے رنگ کا شیر۔ طَیرٌ مُنَمَّر پرندہ جس میں سیاہ نقطے ہوں۔

۳۔ انمَر: صاف پانی پانا۔ النِمْر جمع انمار: صاف ستھرا پانی، بے داغ حسب۔ بہت۔ ـــ من الماء زود ہضم پانی خواہ میٹھا ہو یا نہ ہو۔ النَمیر صاف ستھرا پانی، بے داغ حسب (کہا جاتا ہے: ماءٌ نمیرٌ وحَسَبٌ نمیرٌ: صاف پانی۔ بے داغ حسب) بہت۔ ـــ من الماء زود ہضم پانی میٹھا ہو یا نہ۔

۴۔ النُمْر واحد نُمْرۃ (ت) نمبر۔ کہا جاتا ہے نَمَّرَ الدفاترَ: اس نے کاپیوں پر نمبر لگائے۔

۵۔ النُمرُق و النُمرُقۃ و النُمرَق و النُمرَقۃ و النِمرِق و النِمرِقۃ چھوٹا تکیہ۔

○ تنمّر لِ: سے ناراض ہونا، پر غصے ہونا۔ تنمّر چیتا بن جانا، زبان درازی کرنا، اینٹھ کر چلنا، رعب جمانا، تحکمانہ انداز اختیار کرنا۔ نمر: صاف، پاک، صحت بخش (خصوصاً پانی) انمر مؤ نمراء جمع نُمْر: دھبے دار، دھاریدار، چیت کبرا، لہریے دار۔ نُمرہ و نِمرۃ جمع نُمَر و نِمر: نمبر (Number) تصویر، نقش، مجسمہ، شکل، نقشہ۔ نِمرۃ واحِدۃ: بہترین، نہایت عمدہ، اے ون، بہت عمدہ اعلیٰ۔ نمّار جمع نمّارات: نمبر لگانے والا، نمبر لگانے والی مشین۔ تاریخ چھاپنے والی مشین۔ تنمیر نمبر لگانا، طریق شمار، گنتی۔ مُنَمَّر: نمبر لگا ہوا، شمار کردہ۔ نمّرَ ہ پر نمبر لگانا، کو ایک نمبر مہیا کرنا۔

نمس ا۔ نَمَسَ ـِ نَمْسًا السرَّ راز کو چھپانا۔ ـــ الرجلَ: سے چپکے چپکے باتیں کرنا۔ نمّسَ علیہ الامرَ: کیلئے معاملہ خلط ملط کرنا۔ پیچیدہ کرنا۔ نامسَ مُنامسۃً فلانًا: سے سرگوشی کرنا، سے چپکے چپکے باتیں کرنا۔ ـــ الصائدُ شکاری کا گھات میں بیٹھنا۔ تنمّسَ الامرُ کام کا خلط ملط ہونا، پیچیدہ ہونا، مبہم ہونا۔ ـــ الصائدُ گھات اختیار کرنا۔ انِمَسَ اِنماسًا الرجلُ اپنے آپ کو چھپانا، چھپنا۔ ـــ فی الشیٔ میں داخل ہونا۔ الناموس جمع نوامیس راز دار کہا جاتا ہے: فلانٌ ناموس الامیر فلاں شخص حاکم (امیر) کا راز دان ہے۔ شکاری کی گھات کی جگہ، راہب کا گھر۔ شیر کی مانند، شکاری کا جال، وحی، شریعت۔ ـــ عند العامۃ عزت، کردار۔ الاکبر:

جبریل۔ النامُوسَة: شیر کی ماند۔ المُنامِس: سرگوشی کرنے والا۔ راز دار۔ ہمراز۔ محرم۔

۲۔ نَمَسَ ـــ نَمْسًا بین القوم: قوم میں فساد ڈالنا۔ نَمِسَ ـــ نَمَسًا السمنُ و کلُّ طیبٍ و دھنٍ: گھی، خوشبو یا تیل وغیرہ کا خراب ہونا۔ صفت نَمِس: نَمِسَ الشَعْرُ: بالوں کا چکنائی سے میلا ہونا۔ ـــ السمنُ او الجُبنُ: گھی کا یا پنیر کا بدبودار ہونا صفت۔ مُنَمِّس۔ اَنْمَسَ بین القوم: قوم میں فساد ڈالنا۔ النامُوس جمع نوامیس: جھوٹا، چغلخور۔ دھوکا فریب، خفیہ حیلہ، حاذق۔ النَمَس: گھی و خوشبو وغیرہ کی خرابی۔ دودھ اور چربی کی باس۔ النَمَسَة: بدبو۔ النَمَّاس: چغل خور۔

۳۔ النامُوس جمع نوامیس (ح): چیونٹی کی طرح ایک کیڑا، مچھر، پشہ۔ النامُوسیَّة: مچھردانی۔ النِمْس جمع نُمُوس (ح): نیولا۔ النَمَس: واحد نَمَسَة: (ح) مرغی کی جوں جو اسے بہت تکلیف دیتی اور بعض اوقات اسے مار ڈالتی ہے۔ الأَنْمَس م نَمْسَاء جمع نُمْس: مٹیالا۔

○ نَمَسَ ـ نَمْسًا ہ کو پوشیدہ رکھنا، چھپانا۔ ـ ہ: کو راز کی باتیں کہنا، کو راز دار بنانا، پر بھروسا، اعتبار یا اعتماد کرنا۔ نَامَسَ ہُ: کو راز کی بات بتانا۔ نِمْس واحد نِمْسَة جمع نُمُوس: ایک قسم کا نیولا، راسو، منکس۔ نامُوس جمع نوامیس: عیار، چالاک، مکار، حیلہ باز، ہوشیار، فریبی، راز دار، ہمراز، معتمد علیہ (اسم جمع واحد ناموسة) مچھر، قانون، شریعت، قاعدہ، عزت، آبرو۔ نِمْسَا و النِمْسَا: آسٹریا (Austria) نِمساوی (صفت و اسم) آسٹریا کا، آسٹریا کا باشندہ۔

نمش: نَمَشَ ـ نَمْشًا: چغلی کھانا، جھوٹ بولنا۔ ـــ الکلامَ: جھوٹی بات بنانا۔ ـ الجرادُ الارضَ: ٹڈی کا زمین کی سبزی کو چر جانا۔ ـــ من الارض: زمین سے کچھ اٹھانا۔ ـــ ـ ہُ: کو منقش کرنا۔ نَمِشَ ـ نَمَشًا: دھاریدار ہونا صفت اَنْمَش و نَمِش۔ نَمَّشَ فی اذنہ: سے کانا پھوسی کرنا۔ اَنْمَشَ الرجلُ: چغلخوری کرنا۔ اَنْمَشَ بینھم: لوگوں میں فساد ڈالنا۔ النَمْش (مص) چکنی چپڑی بات۔ النَمَش (مص): جلد کے سفید یا سیاہ نقطے یا داغ دھاری نقش و نگار کے خطوط۔ النَمِش: دھاریدار۔ سیفٌ غِشٌ: جوہردار تلوار۔ وجہٌ نَمِشٌ: داغ دھبے والا چہرہ۔ الأَنْمَش م نَمْشَاء جمع نُمْش: داغدار، دھبے دار۔ عنزٌ نَمْشَاء: داغ دھبے والی بکری۔ رجُلٌ مُنَمِّش: مفسد آدمی۔

○ نَمِشَ ـ نَمَشًا: داغ دھبے دار ہونا۔ نَمَش (اسم جمع، واحد نَمَشَة: ہلکے بھورے داغ، چھائیاں۔ نَمِش: داغ دار، دھبے دار، چھائیوں والا۔ اَنْمَش م نَمْشَاء جمع نُمْش: ہلکا بھورا داغدار، دھبے دار، چھائیوں دار۔

نمص: ۱ـ نَمَصَ ـ نَمْصًا الشعرَ او النبتَ: بال یا پودے اکھیڑنا۔ نَمَّصَ تنمیصًا و تنماصًا الشعرَ: بال اکھیڑنا۔ اِنَّمَصَ النبتُ: پودوں کا جانوروں کے چرنے کے بعد دوبارہ اگ آنا۔ تَنَمَّصَتِ الماشیةُ: مویشی کا پہلی سبزی چرنا۔ ـــ ت المرأةُ: عورت کا پیشانی کے بال اکھیڑنے کے لئے ان کو پکڑنا۔ النَمَص: بالوں کی نرمی و ملائمت۔ چھوٹے چھوٹے پر، ابتدائی پودے۔ سبزہ۔ ایک قسم کی نرم گھاس جس سے طباق اور خوان پوش بناتے ہیں۔ النَمیص: اکھیڑے ہوئے بال۔ ـــ من النبت: سبزی جو مویشی کے چرنے کے بعد پھوٹے یا مویشی اسے منہ سے اکھیڑے۔ المِنْمَص و المِنْمَاص: موچنا۔

۲ـ النِمَاص: سوئی کا دھاگہ۔ النُمَاص: جمع نُمُص و اَنْمِصَة: مہینہ۔

نمط: نَمَّطَ تنمیطًا لفلانٍ الشيءَ و علی الشيءِ: کی چیز کی طرف رہنمائی کرنا، کو چیز کی طرف لیجانا۔ کو کسی چیز کا راستہ دکھانا۔ اَنْمَطَ لہُ العطاءَ: کو تھوڑی بخشش دینا۔ النَمَط: لوگوں کی جماعت جن کا معاملہ ایک ہو ـــ جمع اَنْماط و نماط۔ نسبت کیلئے اَنْماطِیّ و نَمَطِیّ: غالیچہ، ٹوکرے جیسی چیز۔ ہودج پر ڈالنے کا اونی کپڑا۔ طریقہ، راستہ، نوع، کہا جاتا ہے: ھذا من نمط ھذا: یہ اس نوع کا ہے۔ یہ اس طریقہ پر ہے۔ ما عندہ نمط من العلم: اس کے پاس علم کی کوئی قسم نہیں۔ الأَنْمَط: طریقہ۔

○ علی نَمَطِ: کے طریقہ، انداز یا اسلوب پر۔ علی ھذا النَمَط: اس طور پر، اس طرح پر، اس طریقہ پر، حدیثُ النمط: نئے فیشن کا، نئے رواج کا، نئی وضع قطع کا، موجودہ زمانے کا، عصر حاضر کا، جدید۔ عتیق النمط: پرانے فیشن، رواج یا وضع قطع کا، جس کا رواج نہ رہا ہو، دقیانوسی۔ ھم علی نمط واحد: وہ سب ایک جیسے ہیں۔ وہ ایک ہی قسم کے ہیں۔ نَمَطِي: رسمی، ظاہری، رسمی، ضابطے کا، سخت، بے لوچ، تصنع بھرا۔

نمغ: النَمَغَة: پہاڑ کی چوٹی، مال کی کثرت، قوم کے چیدہ، برگزیدہ، منتخب ممتاز یا درمیانے لوگ۔ پیدائش کے موقع پر بچے کی برآمد ہونے والی چندیا۔ النَمَّاغة: سر کا بالائی حصہ، بچہ کا سر حرکت کرتا ہوا تالو یا چندیا۔

نمق: ۱ـ نَمَقَ ـ نَمْقًا الکتابَ: کتاب لکھنا۔ نَمَّقَ الکتابَ: کتاب کو خوبصورت لکھنا۔ ـــ الجلدَ: کھال کو منقش کرنا۔ النَمَق: کتاب۔ نَمَقُ الطریقِ: سڑک کا درمیانی حصہ۔ ثوبٌ نَمِیقٌ: منقش کپڑا۔ التَنْمِیق: آرائش۔ المُنَمَّق: آراستہ جگہ۔ ثوبٌ مُنَمَّق: منقش کپڑا۔ مکانٌ مُنَمَّقٌ: آراستہ جگہ۔ المُنَمِّق: خانہ آرا، ماہر آرائش، جس کا پیشہ مکانوں کو آراستہ کرنا ہو۔

۲ـ نَمَقَ ـ نَمْقًا عینَ فلانٍ: کی آنکھ پر تھپڑ مارنا۔

۳ـ اَنْمَقَتِ النخلةُ: کھجور کے درخت کا بے گٹھلی کھجوروں والا ہونا۔

۴ـ النَمَقَة: بدبو۔

○ نَمَّقَ ہ کو سجانا، کی تزئین کرنا، آراستہ کرنا، آراستہ پیراستہ کرنا، مزین کرنا، کی زیبائش کرنا، کو خوبصورت یا خوشنما بنانا، کو خوبصورت اور بہت اونچے طرز سے لکھنا، متن لکھنا، ترتیب دینا۔ تَنْمِیق: تزیین، زیبائش، سجاوٹ، تزئین، آرائش، تجمید، تنویر، سربلندی، سرفرازی۔ توقیر و ترقی (صناع بدائع سے) تفصیلی تزئین، (متن کی) تحریر جو خوبصورت انداز سے لکھی گئی ہو۔ مُنَمَّق: سجایا ہوا، آراستہ پیراستہ، خوبصورت، شاندار، عمدہ پیرایہ میں، مرصع، صناع بدائع سے بھرا ہوا (متن، زبان)۔

نمل: ۱ـ نَمَلَ ـ نَمْلًا و نَمِلَ ـ نَمَلًا و اَنْمَلَ: چغلی کھانا۔ النامِل (فا) چغلخور۔ النامِلَة: مونث النامل۔ النَمِل: چغلخور۔ النَمْلَة: جھوٹ۔ ـ (نون کی تثلیث کے ساتھ) چغلوری۔ النَمَّال: چغلخور۔ النَمِیلَة: چغلخوری۔ المُنْمَل و المُنْمِل: چغلخور۔

۲ـ نَمَلَ ـ نَمْلًا فی الشجر: درخت پر چڑھنا۔ نَمِلَ ـــ نَمِلَتْ یدُہُ: کے ہاتھ کا سن ہونا۔ ـــ نَمْلًا و اَنْمَلَ فی الشجر: درخت پر چڑھنا۔ تَنَمَّلَ القومُ: حرکت کرنا، بعض کا بعض میں گھسنا۔ النامِلَة: عام چلتا ہوا راستہ۔ النَمْل: پہلو کی پھنسیاں۔ ـــ و النَمْلُ واحد نَمْلَة و نُمُلَة: (مذکر و مونث کیلئے) جمع نِمَال (ح) چیونٹی۔ النَمِل: چغل خور۔ بہت چیونٹیوں والی (جگہ)۔ کہا جاتا ہے: مکانٌ نَمِلٌ و ارضٌ نَمِلَة: بہت چیونٹیوں والی جگہ، بہت چیونٹیوں والی زمین۔ فرسٌ نَمِلٌ او نَمِلُ القوائمِ: شوخ گھوڑا۔ جو نچلا کھڑا نہ رہے۔ رجُلٌ نَمِلٌ او نَمِلُ الاصابعِ: پھرتیلا آدمی۔ النَمْلَة: پہلو کی پھنسیاں، ایک سوزش دار پھنسی جو جگہ بدلتی رہے۔ کہا جاتا ہے: فرسٌ ذو نَمْلَة: بہت حرکت کرنے والا گھوڑا۔ النَمْلانُ: کسی چیز کے اوپر سے جھانکنا۔ النَمْلَی من

الـنـسـاء: ایک جگہ نہ ٹھہرنے والی عورت۔ الأُنْمُلَة والأَنْمَلَة والإِنْمِلَة والأَنْمُلَة والأَنْمِلَة او الأُنْمُلَة والإِنْمُلَة: ہمزہ و میم کی تثلیث کے ساتھ) جمع أنَامِل و انملات: (ان دونوں حرفوں کی تثلیث کے ساتھ) ۔ انگلیوں کا سرا، بعض کے نزدیک: انگلی کا اوپر کا پورا جس میں ناخن ہوتا ہے۔ المُنْمَل و المُنَمَّل: لکھا ہوا، گنجان لکھا ہوا۔ المُنَمَّلة من النساء: ایک جگہ نہ ٹھہرنے والی عورت۔ المنمُول: زبان، طعام منمول: چیونٹیوں کا خراب کیا ہوا(کھانا)

۳۔ النَمْلَة: جانور کے گھر کی چھتن۔ النُمْلَة: حوض کا بقیہ پانی۔

۴۔ نَـامَلَ مُـنَامَلَةً: قیدی کی طرح چلنا کہا جاتا ہے: ھو يُنَامِلُ فی قیدہ: وہ قیدی کی طرح چلتا ہے۔

○ نَمِلَ ۔ نملاً: کو جھنجھناہٹ ہونا، کو خراش ہونا، سن ہونا، شل ہونا، بے حس ہونا۔ نَـمْلِـي: چیونٹی جیسا، چیونٹی کا، نَمْلِيَة: نعمت خانہ، (گوشت یا خوراک کا)۔ نَـمَـل: خارش، گدگدی، جھنجھناہٹ، چبھن، نَـمِـل: رینگنے والا، رینگتے ہوئے چلنے والا، گھسٹنے والا۔ پیٹ کے بل چلنے والا۔ بہت آہستہ چلنے والا۔ کیڑوں مکوڑوں سے بھرا ہوا، تیز ہوشیار، چالاک۔ انْمَلَة جمع انامل: پور۔ مَنْمُول: کیڑوں مکوڑوں سے بھرا ہوا۔ تَـنْـمِـيل: کھجلی یا خارش ہونا، گدگدی، جھنجلاہٹ، جھرجھری، چبھن۔

نمه: نَمِهَ ۔ نَمَهًا: حیرت زدہ ہونا۔ صفت نَامِه و نَمِه۔

نمو: نَمَا يَنْمُو نُمُوًّا: زیادہ ہونا، بکثرت ہونا، بلند ہونا۔ الـخـضـابُ: خضاب کا سرخی یا سیاہی میں زیادہ ہونا۔ ۔ الحدیثُ إلی فلان: بات کی کسی کی طرف نسبت کرنا۔ النُمُوّ (مص): افزائش۔ النَمْوَة: زیادتی۔

۲۔ الـنَـمُـوذَج: نمونہ۔ الأنمُوذَج جمع نموذجات و أنمُوذَجات: نمونہ۔ (فارسی لفظ)

○ نُمُوّ: افزائش، ترقی، بہتری۔ نَـمُوذَج و نُمُوذَج جمع نموذجات و نَمَاذِج: نمونہ، مثال، قسم، نقش، نظیر، مثل، سادہ کاغذ، ایسی دستاویز جس کے خالی مقامات پر کئے جائیں۔ فارم (Form)۔ نَمُوذَجِی: مثالی، تقلید کے قابل، نمونے کا، معیاری، قابل تقلید، جیسا ہونا چاہئے ویسا ہی۔

نمی: ۱۔ نَـمَـى يَنْمِي نَمْيًا و نُمِيًّا و نَمَاءً و نَمِيَّةً المالُ وغيرُه: مال وغیرہ کا زیادہ ہونا، بکثرت ہونا۔ ۔ السعرُ: بھاؤ کا چڑھنا، گراں ہونا۔ ۔ الشیءَ علی الشیء: کو سے بلند کرنا۔ ۔ النارُ: آگ کو زور سے بھڑکانا۔ ۔ الرجلُ: آدمی کا فربہ ہونا۔ ۔ الماءُ: پانی کا چڑھنا۔ ۔ الحِبرُ فی الکتاب: روشنائی کا لکھنے کے بعد بہت سیاہ ہونا۔ ۔ الخضابُ فی الیدا و الشَعَرِ: خضاب کی سیاہی کا ہاتھ میں یا بالوں پر زیادہ ہونا۔ الحدیثُ إلی فلان: بات کا کسی کی طرف منسوب ہونا۔ ۔ فلانٌ الحدیثَ إلی فلانٍ: کسی کا بات کو کسی کی جانب نسبت کرنا۔

۔ الرجُلَ إلی ابیه: کی باپ کی جانب نسبت کرنا۔ ۔ الصیدُ: شکار کا زخمی ہو کر کہیں چھپ کر مر جانا۔ ۔ ت الابـلُ: اونٹوں کا موٹا ہونا، گرمی میں گھاس کی تلاش میں دور تک نکل جانا۔ نَـمَّـى تَـنْـمِيَةً الشیءَ: کو بڑھانا۔ ۔ النارَ: آگ کو زور سے بھڑکانا۔ ۔ الحدیثَ الـ: بات کی کسی کی جانب نسبت کرنا۔ کسی کو کوئی بات فساد کے ارادے سے پہنچانا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ يُنَمِّي احادیث الناس: فلاں شخص لوگوں کی باتیں فساد کے ارادے سے پہنچاتا ہے۔ أَنْمَى إنْمَاءً الشیءَ: کو بڑھانا۔ زیادہ کرنا، زیادہ ہو جانا۔ ۔ الصیدَ: شکار کا زخمی ہو کر کسی اوٹ میں مر جانا، اس کی ضد أصْمَى ہے۔ جس کا معنی ہے: شکار کو زخمی کرتے ہی قتل کر ڈالنا۔ کُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أنمیتَ: جس شکار کو زخمی کر کے فوراً مار ڈالے اسے کھالے اور اس شکار کو چھوڑ دے جو زخمی ہو کر کسی اوٹ میں مر جائے۔ ۔ الحدیثَ: بات کو چغلخوری کے طور پر پھیلانا۔ الراعیُ الابلَ: چرواہے کا اونٹوں کو دور تک لیجانا۔ ۔ الکلأُ الابلَ: اونٹوں کو گھاس کا فربہ کرنا۔ ۔ الکرمُ: انگور کی بیل میں گچھے دار شاخیں ہونا۔ أَنْمَيْتُ لِفُلانٍ: میں نے فلاں شخص کو تھوڑی غلطی پر چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ بڑی خطا کا ارتکاب کرے جہاں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہو۔ تَنَمَّى تَنَمِّيًا الشیءُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھنا۔ اِنْتَمَى اِنْتِمَاءً فلانٌ إلی ابیه: کسی شخص کا اپنے باپ سے منسوب ہونا۔ ۔ البازی: شکرے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بلند ہونا۔ ۔ فلانٌ فوق الوسادة: تکیہ پر بلند ہونا۔ النَـامِي (فا): نجات پانے والا۔ الـنَـامِيَة جمع نَوَامٍ: بڑھنے کی طاقت۔ قوت نامیہ۔ مخلوق خدا، نامی کا مونث۔ ۔ من الابل: موٹے اونٹ۔ نَامِيَة الکرم: انگور کی خوشہ دار شاخ۔

۲۔ النَمَاة جمع نَمًى: چھوٹی جوں

○ نَـمَى ۔ نَمْيًا و نَمَاءً و نَمِيَّةً: بڑھنا، زیادہ ہونا، اٹھنا، بلند ہونا، ترقی کرنا، آگے بڑھنا، پھولنا پھلنا، پنپنا، فروغ پانا، پھیلنا، سرسبز ہونا، بارآور ہونا، پورے عروج پر ہونا، مالامال ہونا۔ ۔ الی: سے منسوب کیا جانا، سے منسوب ہونا۔ ہ إلی: کو سے منسوب کرنا۔ ۔ الی: کو بتایا جانا، آگاہ کیا جانا، سے بیان کیا جانا۔ ۔ الی: کو (خبر کا) پہنچنا، کے علم میں آنا۔ نَمَّى و أَنْمَى ہ: کو بڑھانا، زیادہ کرنا، ترقی دینا، آگے کرنا، چڑھانا (بھاؤ یا قیمتیں) اِنْتَمَى إلی: کی اصل سے ہونا کی نسل سے ہونا، کی اولاد ہونا، کا رشتہ دار ہونا، سے تعلقات رکھنا، سے ملحق ہونا، کا ہم صحبت ہونا، کی ملک ہونا، کا فرد ہونا، پر انحصار کرنا، پر منحصر ہونا، سے وابستہ ہونا، (کسی تنظیم وغیرہ) کا رکن ہونا، سے متعلق ہونا۔ نَـمَـاء: افزائش پھیلاؤ، زیادہ، اضافہ، ہم نموئی، بڑھوتری، ترقی۔

نَمِی: بمعنی نماء إنْتِمَاء: رکنیت۔ نَامِيَة جمع نَوَامٍ: افزائش غیر صحتمندانہ افزائش یا صورت۔ دنبل، پھنسی پھوڑا، رسولی۔ النوامی السرطانیہ: سرطانی صورتیں۔ مُنْتَمٍ إلی: کی ملکیت، سے لگاؤ رکھنے والا، سے متعلق نسبت رکھنے والا، سے منسوب۔ مُنْتَمًى: نسل، نسبت، پشت، پیڑھی، اصل، رشتہ داری۔ رکنیت، تعلق، نسبت، الحاق۔

نه: نَهْنَهَ ہُ عن الشیء نَهْنَهَةً: کو روکنا۔ ڈانٹنا۔ تَنَهْنَهَ: رک جانا۔ النَهْنَهَةُ: باریک بناوٹ کا کپڑا۔

نہا: نَهَا يَنْهَا نُهَاءً الاناءُ: برتن کا بھر جانا۔ کہا جاتا ہے: شرب فلانٌ حتی نَهَا: فلاں شخص نے پیا یہاں تک کہ وہ پر ہو گیا۔ نَهِيَ يَنْهَا و نَهُوَ يَنْهُو نُهًا و نَهَاءَةً و نُهُوءًا و نَهُوءَةً و نَهَاوَةً اللحمُ: گوشت کا کچا رہنا، صفت نَهِيءٌ۔ أَنْهَأَ اللحمَ: گوشت کو کچا رکھنا۔ ۔ الامرَ: کام کو ادھورا کرنا۔ الناهِي: پیٹ بھرا، سیراب النُهُوءَة: کچاؤ۔

نهب: ۱۔ نَهَبَ ۔ و نَهِبَ ۔ نَهْبًا القومُ فلانًا: قوم کا کسی کو برا بھلا کہنا۔ ۔ ہُ الکلبُ: کتے کا کسی کی ایڑی پر کاٹنا۔ ۔ الغنیمةَ: غنیمت لوٹنا۔ نَاهَبَ مُنَاهَبَةً: سے دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔ ۔ القومُ فلانًا: قوم کا کسی کو برا بھلا کہنا۔ ۔ الغنیمةَ: غنیمت لوٹ لینا۔ أَنْهَبَ الرجُلُ مالَه: مال کو لٹانا۔ ۔ ہُ المالَ: کو مال لٹانا۔ تَنَاهَبَ الفرسَانِ: گھوڑوں کا دوڑنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا۔ ۔ ت الابلُ الارضَ: لمبے لمبے ڈگ بھرنا۔ اِنْتَهَبَ النَهْبَ: لوٹ کا مال لینا۔ ۔ الفرسُ الشوطَ: گھوڑے کا گھوڑ دوڑ میں جیتنا، کہا جاتا ہے: جوادٌ ینتهب الغایة: گھوڑ دوڑ کی حد کے نشان میں پہلے پہنچنے والا گھوڑا۔ النَهْب (مص): ایک قسم کی دوڑ۔ ۔ جمع نِهَاب: غنیمت لوٹ، کہا جاتا ہے۔ هذا زمانُ النهب: یہ لوٹ مار کا وقت ہے۔ النُهْبَة و النُهْبَى و النُهَّيْبَى

والنُّهَيبى: لوٹا غنیمت، لوٹی ہوئی چیز۔ النَّهّاب: بہت لوٹنے والا۔ المِنهَب گھوڑ دوڑ جیتنے والا گھوڑا۔ المُنتَهَب: مصدر میمی بمعنی الانتہاب: لوٹ لوٹنے کی جگہ۔ المَنهُوب (مفع): فوری واجب الادا رقم، فوری مطلوب۔

۲۔ النَّهابیر: جہنم۔ — والنَّهابیر واحد نُهبُرَة ونُهبُور ونُهبُورَة: ہلاکتیں، زمین یا ریت کے ابھرے ہوئے مقامات۔ بعض کے نزدیک ٹیلوں کے درمیان کے گڑھے۔ کہا جاتا ہے: غَشِيَ بِه النَّهابیر: اس نے اسے ایک سخت کام پر اکسایا۔ النَّهبَرة: لمبی دبلی عورت یا وہ جو قریب الموت ہو۔

۳۔ نَهبَل الرجلُ: مرد کا عمر رسیدہ ہونا، لنگڑا ہونا۔ النَّهبَل: عمر رسیدہ۔ کہا جاتا ہے: شیخ نَهبَلٌ وعجوز نَهبَلَة: عمر رسیدہ بوڑھا یا بڑھیا۔ النَّهبَلَة: بوجھل چال۔ موٹی اونٹنی۔

ⓒ نَهَبَ ـَ ونَهِبَ ـَ نَهبًا ه: لوٹ مار کرنا، ہر چیز لوٹ لینا، جھاڑو پھیرنا، کو بزور قوت لے لینا۔ نهب الارضَ و نهب الطریقَ الی: تک کا فاصلہ جلدی یا ہولناک رفتار سے طے کرنا۔ انهَبَ ه کو ہر چیز لوٹ لینے دینا یا جھاڑو پھیرنے دینا۔ — ه ه کیلئے لوٹ کا مال یا مال غنیمت کے طور پر کچھ چھوڑنا یا کو دینا۔ تَناهَبَ ه (روح، دل) پکڑنا، تھامنا، مٹھی میں لینا، قبضہ میں کر لینا۔ تَناهَبَ الارضَ عَدْوًا: زمین پر بھاگتے قدم سے دوڑنا۔ اِنتَهَبَ ه کو پکڑنا، مٹھی میں لینا، کو قبضہ میں کر لینا، کو لوٹ لینا، چھین لینا، کو آنکھوں سے پھاڑ کھانا، انتهب الطریقَ الی: تک کا فاصلہ فی الفور یا ہولناک رفتار سے طے کرنا۔ نَهب: رہزنی، ڈاکہ، لوٹ مار کرنا، غارت گری کرنا، تاخت و تاراج کرنا، لوٹ کھسوٹ، لوٹ مار، مال غنیمت، مال غنیمت سمجھ کر قبضہ کر لینا۔ غارت گری، سرپٹ، سرپٹ دوڑ۔ جمع نِهاب۔ نَهبًا: رہزنی سے، ڈاکہ سے۔ نُهبَة: مال غنیمت، لوگوں کا مال۔ نُهبَی بمعنی نُهبَة، نَهّاب: ڈاکو، رہزن، لوٹنے والا، تاراج کرنے والا، غارت گر، لٹیرا، قزاق۔ نُهبُرَة جہنم، پاتال۔

نہت: ۱۔ نَهَتَ ـِ نَهْتًا ونَهِيتًا الاسدُ او الحمارُ او الرجلُ: شیر کا دھاڑنا، گدھے کا رینگنا، مرد کا واویلا کرنا، کراہنا۔ رأیتُهُ ینهتُ كما ینهت القردُ: میں نے اسے بندر کی طرح آواز نکالتے ہوئے دیکھا۔ النَّاهِت (فا) گلا، حلق۔ النَّهّات: رینگنے والا۔ — والمِنهَت (ح) شیر

۲۔ نَهتَر فلان علینا: فلاں نے ہم ۔ جھوٹ بولا۔ عام لوگ اس معنی میں تَمَهتَرَ کہتے ہیں۔

نہج: ۱۔ نَهَجَ ـَ نَهجًا ـ نَهَجًا الرجلُ: ہانپنا۔ اَنهَجَ الدابّةَ جانور پر سواری لیکر اس کا سانس چڑھانا۔ — فلانًا: کا سانس چڑھانا۔ النَهج والنَهِیج: ہانپنا۔

۲۔ نَهِجَ ـَ نَهَجًا الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہو کر نہ پھٹنا۔ صفت۔ نَهِج ۔ — نَهَجًا الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ انهَجَ الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ — الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا یا بوسیدہ ہونے لگنا۔ المُنهَج: جلد بوسیدہ ہونے والا کپڑا۔

۳۔ نَهَجَ ـَ نَهجًا الامرَ: امر کو واضح کرنا، ظاہر کرنا۔ — الطریقَ: راستہ پر چلنا۔ — نَهجًا ونُهُوجًا الطریقُ او الامرُ: راستہ یا معاملہ کا واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ اَنهَجَ الطریقُ او الامرُ: راستہ یا معاملہ کا واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ — الطریقَ و الامرَ: راستہ یا معاملہ کو ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ اِنتَهَجَ الرجلُ: چلنا یا واضح راستہ تلاش کرنا۔ — الطریقَ: راستہ کو ظاہر کرنا۔ اِستَنهَجَ الطریقُ: راستہ کا واضح ہونا۔ فلانٌ سبیلَ فلان: وہ فلاں شخص کے مسلک پر چلا، اس کا پیرو ہوا۔ طریقٌ ناهجةٌ: واضح راستہ۔ النَّهج (مص) واضح راستہ، کہا جاتا ہے۔ طریقٌ نَهجٌ وطُرُقٌ نَهجَة ونَهَجات ونُهُجٌ ونُهُوجٌ: واضح راستہ، (جمع) واضح راستے۔ نَهجُ البلاغة: بلاغت کا واضح طریقہ۔ حضرت علیؓ کے خطبات پر مشتمل کتاب کا نام۔ المَنهَج والمِنهَج والمِنهاج جمع مَناهِج: واضح راستہ۔ مَنهج او مِنهاجُ التعلیم او الدروس: نصاب تعلیم، نصابی کتابیں۔

ⓒ نَهَجَ ـَ نَهجًا: کارروائی کرنا، کردار ادا کرنا۔ — ه: راستہ اختیار کرنا، راستہ سے جانا۔ — ه: کو واضح کرنا، — کھلا ہوا، واضح ہونا، صاف و بین ہونا۔ — ـ نَهَجًا و نَهِجَ ـ نَهَجًا: سانس پھولنا، ہانپنا، سانس چڑھنا، دم چڑھنا ـ خِطّةً: منصوبہ انجام دینا یا جاری رکھنا۔ رویہ اختیار کرنا۔ — علی مِنوالِهِ: کی مثال پر عمل کرنا۔ نَهَّجَ ه: کا سانس چڑھانا، کو ہپانا۔ اَنهَجَ ه: کا سانس چڑھانا، کو ہپانا۔ — (معاملہ) کا واضح ہونا۔ — ه کو واضح کرنا، کی توضیح کرنا۔ اِنتَهَجَ ه: راستہ اختیار کرنا، راستہ سے جانا۔ اِنتَهَجَ سبیلَهُ و اِستَنهَجَ سبیلَهُ: کی مثال پر عمل کرنا، کے نقش قدم پر چلنا، کی تقلید کرنا، پیروی کرنا۔ نَهج جمع نُهُوج: واضح راستہ، سڑک، طریقہ، طریقہ کار، اسلوب کار، دستور العمل، طرز، ڈھنگ، انداز، طرح، اسلوب۔ نَهجَ نَهجَهُ کے طریقہ کا اتباع کرنا۔ النَّهجُ القویم سیدھا راستہ۔ صحیح طریقہ، مناسب انداز۔ نَهَج: ہانپنا، دم چڑھنا، سانس پھولنا۔ نَهِیج: تیز تیز سانس لینا، ہانپنا، دم چڑھنا، سانس پھولنا۔ ناهِج: کھلی ہموار سڑک۔ مَنهَج و مِنهَج جمع مَناهِج: کھلی ہموار آسان سڑک، انداز، اسلوب، طرز، طریقہ کار، دستور العمل، اسلوب کار، طریقہ، پروگرام، لائحہ کار، نظام العمل، راستہ۔ مَناهِجُ البحث: علمی تحقیق کے طریقے۔ مِنهاج جمع مَناهِیج: راستہ، سڑک، طریقہ، پروگرام۔

نہد: ۱۔ نَهَدَ ـُ نُهُودًا الثديُ: پستان کا ابھرنا۔ — ت المرأةُ: عورت کا ابھرے ہوئے پستانوں والا ہونا۔ صفت ناهِد وناهِدَة۔ — ت القِربةُ: مشک کا بھرنے کے قریب ہونا۔ — نُهُودًا ونَهدًا الهدیةَ: ہدیہ کو بڑا سمجھنا یا بڑا کرنا۔ — لِلعدوّ والی العدوّ: دشمن سے لڑنے کیلئے جلدی کرنا یا نکلنا۔ — نَهدًا: اٹھنا۔ — الیه: کیلئے کھڑا ہونا۔ دخل المسجد فنهدَ الناس یَسألُونَهُ: وہ مسجد میں آیا تو لوگ کھڑے ہو کر اس سے سوال کرنے لگے۔ نَهُدَ ـُ نُهُودَةً الفرسُ: گھوڑے کا عمدہ اور مضبوط ہونا۔ نَهَّدَتِ المرأةُ: عورت کا ابھرے ہوئے پستانوں والی ہونا۔ صفت مُنَهِّد۔ ناهَدَ مُناهَدَةً ہ: کا لڑائی میں مقابلہ کرنا۔ اَنهَدَ العطیةَ: بخشش کو بڑھانا۔ — الحوضَ او الاناءَ: حوض یا برتن کو لبالب بھرنا۔ — فلانًا: کو اٹھانا۔ — تِ المرأةُ: عورت کا ابھرے ہوئے پستانوں والی ہونا۔ تَنَهَّدَ الرجلُ: ٹھنڈا سانس بھرنا۔ تَناهَدَ القومُ فی الحرب: جنگ میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ اِستَنهَدَهُ: کو لڑائی پر اکسانا۔

النّاهِد جمع نُهَداء ونُهّاد فا (ح): شیر۔ — جمع نَواهِد: ابھرے ہوئے پستانوں والی عورت۔ غلام ناهِد: بلوغ کے قریب پہنچنے والا لڑکا۔ النَّهد (مص) جمع نُهُود: بلند چیز۔ (ح) شیر۔ مضبوط عمدہ گھوڑا۔ (ع ا) پستان، شریف آدمی، مشک۔ النِّهاد: مقدار، اندازہ۔ هذا نِهادُ مِئةٍ: یہ سو کے قریب ہے۔ النَّهداءُ: ریت کا بلند ٹیلہ۔ حوضٌ او اناءٌ نَهدان: لبالب بھرا ہوا حوض یا برتن جو چھلکا نہ ہو۔ النَّهِید: گاڑھا مکھن مسکہ۔ النَّهِیدَة: گاڑھا مسکہ۔ المُناهَدَة (مص) مخاصمت۔ المَنهُود الیه: قصد کیا ہوا، جھپٹا مارا ہوا۔

۲۔ تَناهَدَ القومُ: ایک دوسرے کے برابر نفقہ نکالنا تاکہ کوئی چیز خرید کر اکٹھے کھائیں، نکالی ہوئی رقم کو النِّهد

کہتے ہیں۔ ــــ القومُ الشیئَ: کوٹل کرکھانا۔ النِّھْد: برابر کا حصہ جو سفر کے ساتھی خرچ کے لئے پیش کریں کہاجاتا ہے: طَرَحَ نِھْدَہٗ مع القوم: اس نے قوم کی مدد کی۔

○ نَھَدَ ـُـ نھودًا: (پستانوں کا) گول اور بھرا ہوا ہونا ابھرنا (عورت کا) گداز جسم اور گول اور ابھرے ہوئے پستانوں والا ہونا۔ تَنَھَّدَ: آہ بھرنا، ٹھنڈی سانس لینا۔ تَنَاھَدَ: اخراجات میں حصہ دار ہونا۔ ہ کو آپس میں برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ نَھْد جمع نُھُود: پستان، سینہ، چھاتی، بلندی، ارتفاع، ابھار، کوہان، گومڑا۔ تَنَھُّدجمع تَنَھُّدات: آہ۔ ناھِد: گول بھرا ہوا اور ابھرا ہوا پستان، جوانی کے جوبن میں، گداز جسم، صحت مند، قبول صورت (عورت)

نہر ا۔ نَھَرَ ــــ نَھْرًا الماءُ: پانی کا زمین پر بہہ کر اپنے لئے نہر بنا لینا۔ ــــ الدمُ: خون کا زور سے بہنا۔ ــــ نَھرًا: نہر کھودنا، نہر جاری کرنا۔ ــــ ونَھِرَ ـَـ نَھَرًا الحافرُ: کھودنے والے کا پانی تک پہنچنا۔ کہاجاتا ہے: حفرتُ البئرَ حتی نَھِرتُ: میں نے کنواں کھودا یہاں تک کہ پانی تک پہنچ گیا۔ اَنْھَرَ النھرَ: نہر کو وسیع کرنا، نیزہ کے زخم کو وسیع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ــــ الدمَ: خون نکالنا، بہانا۔ ــــ الدمُ: خون بہنا۔ ــــ العِرقُ: رگ کا خون نہ رکنا۔ ــــ البطنُ: پیٹ چلنا۔ ــــ الحافرُ: کھودنے والے کا پانی تک پہنچنا۔ ــــ الرجلُ: دن کرنا۔ اِنْتَھَرَ العِرقُ: رگ کا خون بند نہ ہونا، نہ رکنا۔ ــــ بطنُہٗ: کا پیٹ چلنا۔ اِسْتَنْھَرَ الشیئُ: چیز کا وسیع ہونا۔ ــــ النھرُ: دریا کا اپنے بہنے کے لئے جگہ بنا لینا۔ النَّاھُور: بادل۔ النَّھْر جمع اَنْھُرُ واَنْھار ونُھُر: ندی، دریا۔ جری النھرُ: دریا بہنا۔ جَفَّ النھرُ: دریا کا خشک ہونا۔ النَّھَر: گنجائش۔ دریا۔ کہاجاتا ہے۔ نَھْرٌ نَھِیر: چوڑا دریا۔ نھارٌ نَھِرٌ: روشن دن۔ ماءٌ نَھِر: بہت پانی۔ النَّھار: عام لوگ اس کی جمع نَھارات بناتے ہیں جمع اَنْھُر ونُھُر: دن۔ فجر کے طلوع سے غروب آفتاب تک کا وقت۔ یا طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت۔ شرع میں صبح سے مغرب تک (رات کی ضد ہے) النَّھاری: ناشتہ۔ الأَنْھَر: اسم تفضیل۔ نھارٌ أنھر بہت چمکیلا دن (جیسے کہاجاتا ہے لیلٌ أَلْیَل: بہت تاریک رات) الانھران من منازل القمر (فلک) چاند کی منزلوں میں العَوَّاء و السماك۔ ــــ النَّھِیر: بہت۔ النَّھِیرَۃ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ المَنْھَر: دریا کے پانی چلنے کی جگہ۔

قلعہ سے پانی باہر نکلنے کی نالی۔ المَنْھَرۃ: کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ۔ کہاجاتا ہے: أَمامَ دارِھم مَنْھَرۃ: ان کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہے۔

۲۔ نَھَرَ ـَـ نَھْرًا السائلَ: سائل کو جھڑکنا۔ عام لوگ اسے اس کو بلانے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اِنْتَھَرَ السائلَ: سائل کو جھڑکنا۔

۳۔ اَنْھَرَ فلانٌ: بھلائی نہ پانا۔

۴۔ اَنْھَرَ فی العَدْوِ: دوڑنے میں سست ہونا، تاخیر کرنا۔

۵۔ النَّاھِر والنَّھِر: سفید انگور۔ النَّھار جمع اَنْھِرَۃ ونُھُر (ح) قطا (پرندہ) کا بچہ (ح) نرالو، نر سرخاب۔

○ نَھَرَ ــــ نَھْرًا: کثرت سے بہنا، کا دریا بہنا، زور سے نکلنا۔ ــــ ہ: کو جھڑکنا، کو غصے کے الفاظ سے نکال دینا، کو چلتا کرنا، کی بات بے پروائی سے مسترد کر دینا، سے سردمہری کا سلوک کرنا، کو ہانکنا، رگیدنا۔ اِنْتَھَرَ ہ: کو جھڑکنا، جھاڑ جھپاڑ کرنا، ہانکنا، رگیدنا۔ نَھْر جمع اَنْھُر واَنْھار ونُھُور: ندی، دریا۔ جمع اَنْھُر واَنھار: (اخبار کا) کالم۔ مابین النھرین: میسوپوٹامیا Meso potamia (دریائے دجلہ وفرات کے درمیان کا علاقہ) نھرُ اردن: دریائے اردن۔ نھر السلام: دریائے دجلہ۔ نھر الشریعۃ: دریائے اردن۔ نَھْری: دریائی، ساحلی، لب دریا کا۔ نَھارجمع اَنْھُر ونُھر: دن، دن کا وقت (فجر سے شام کے دھندلکے تک) یوم بھی دن کو کہتے ہیں مگر یہ ۲۴ گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ نھارا ولیلا: دن رات (کو) لیل نھار: دن رات۔ نھارٌ أنھر حیرت انگیز دن۔ نَھارِی: دن یا دن کے وقت کا۔ روزانہ، روزمرہ نَھاریات: دن کی خبریں۔ متفرقات (اخبار کے ایک کالم کی سرخی) نَھِیر: وافر، فراخ، کشادہ، کافی، بہت، فراواں، کثیر۔ نُھَیر جمع نُھَیرات: چھوٹا دریا، ندی، کھاڑی، دریا کی شاخ، نالہ، آبجو، معاون دریا۔ اِنتھار: جھڑک، جھاڑ، جھاڑ جھپاڑ، سرزنش، استرداد، نامنظوری، بے پروایانہ انکار، انکار، گھن، کراہت۔

نہز: نَھَزَ ـَـ نَھْزًاہ: کو حرکت دینا، ہلانا۔ فلانٌ: چیز لینے کے لئے اٹھنا۔ ــــ الشیئُ قریب آنا۔ المولود للفطام: بچہ کا دودھ چھڑانے کی مدت کے قریب آنا، صفت مذکر ناھِزٌ مؤنث ناھِزَۃ۔ الفصیلُ ضرعَ اُمّہ: بچہ کا ماں کے تھن پر ٹکر مارنا۔ ــــ تِ الدابۃُ: جانور کا سینہ نکال کر چلنا۔ ــــ ت الدابۃُ برأسھا: جانور کا حفاظت کیلئے سر اٹھانا۔ ــــ بالدلو فی البئر: کنویں میں ڈول ہلانا تاکہ بھر جائے۔ ــــ الدلوَ من البئر: ڈول کو کنویں سے نکالنا۔ ــــ

الرجلُ: قے کرنے کے لئے گردن لمبی کرنا اور سینہ دبانا۔ ــــ قیحًا: پیپ پھینکنا کہاجاتا ہے: نھزتنی الیك حاجۃٌ: ضرورت مجھے تمہارے پاس لے آئی۔ ناھَزَ مُناھَزَۃً ہ: کے نزدیک آنا۔ ناھَزَ الخمسینَ: وہ پچاس کے قریب پہنچا۔ ناھَزَ الفطام: وہ دودھ چھڑانے کی مدت کے قریب پہنچا۔ ــــ الصیدَ: شکار کو جا پکڑنا۔ ــــ الفرصۃَ: فرصت کو غنیمت جاننا، سمجھنا۔ نَاھَزَتْھُمُ الفُرَصُ: کو موقع ملنا۔ اَنْھَزَہٗ: کو دفع، دور کرنا، اٹھانا۔ تَنَاھَزَا: باہم سبقت لیجانے میں مقابلہ کرنا کہاجاتا ہے: تَنَاھَزُوا الفُرَصَ: وہ موقعوں سے استفادہ کرنے کے لئے آگے ہوئے۔ اِنْتَھَزَ الفرصۃَ: موقع کو غنیمت جاننا اور اس کے لئے جلدی سے اٹھنا۔ ــــ الشیئَ: کو قبول کرنا اور اسے لینے کے لئے شتابی کرنا۔ ــــ فی الضحك: بہت ہنسنا۔ ناھِزُ القوم: قوم کا سردار۔ النَّھْز (مص): ہاتھ میں لینا، لینے کیلئے اٹھنا، کہاجاتا ہے: نَھْزُہٗ کذا: وہ اس کے انداز کا ہے۔ النَّھَز (ح) تیر۔ النُّھْزَۃ جمع نُھَز: فرصت، کہاجاتا ہے: ھو نُھْزَۃ المُختلس: وہ ہر ایک کا شکار ہے۔ النُّھَاز والنِّھاز: مقدار کہاجاتا ہے: ھذا نُھاز ذلك: یہ اس کے اندازے کا ہے۔ النَّھّاز: مبالغہ کا صیغہ۔ سینہ نکال کر چلنے والا گدھا۔ المُناھَزَۃ (مص): مسابقت۔ المُنْھَز من البئر: کنویں کا کامن۔

○ نَھَزَ ــــ نَھْزًا ہ: کو دھکیلنا، ریلنا، زور سے دھکیلنا، کو ہانکنا، آگے بڑھانا، کو پسپا کرنا، کو روکنا، سے بچنا، اپنے سے پرے رکھنا۔ نَاھَزَ ہ: کے قریب ہونا (خصوصاً مجازاً و کنایۃً) تک پہنچنا، کو حاصل کرنا، کے قریب ہونا، کے پاس آنا، نزدیک جانا، کو زبردستی لے لینا، پر قبضہ کرنا۔ ناھَزَ البلاغ بلوغت کی عمر کو پہنچنا۔ ناھَزَ الخمسین: پچاس کے قریب قریب ہونا۔ اِنْتَھَزَ الفرصۃَ غرصت سے فائدہ اٹھانا، موقع سے فوراً فائدہ اٹھانا۔ اِنْتَھَزَہ فرصۃً لِ کو کے موقع یا فرصت کے طور پر استعمال کرنا۔ نُھْزَۃ فرصت۔ موقع۔ نَھّازُ الفُرَص کسی موقع سے فوراً فائدہ اٹھانے والا، ابن الوقت مصلحت بین، زمانہ ساز۔ اِنتھاز الفُرَص: موقعوں کا اپنے مقصد کیلئے استعمال۔ مصلحت پرستی، زمانہ سازی، ابن الوقتی۔ انتھازی: ابن الوقت، مصلحت بین، زمانہ ساز۔ انتھازیۃ: مصلحت پرستی، زمانہ سازی۔ ابن الوقتی۔

نہس: نَھَسَ ـَـ وَنَھِسَ ـَـ نَھْسًا اللحمَ: گلے دانتوں سے گوشت نوچنا۔ ــــ تِ الحیّۃُ فلانًا کو سانپ کا

ڈسنا۔ ـــ الکلبُ فلاناً: کو کتے کا کاٹنا۔ اِنْتَھَسَ
اللحمَ: گوشت کو اگلے دانتوں سے نوچنا۔ ـــ
فلاناً: کی غیبت کرنا۔ النَھَس والنُھَس جمع
نِھسان (ح) ایک قسم کا شکاری پرندہ۔ النَھّاس
والنَھُوس والمِنْھَس: دانتوں سے بہت گوشت
کاٹنے والا۔ (ح: شیر۔ (ح) بھیڑیا۔ النَھِیس: کم
گوشت والا۔ دبلا۔ ـــ المَنْھَس: دانتوں سے بہت
گوشت کاٹنے والا، کاٹنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ارضٌ
کثیرةُ المَناھِس: بہت چراگاہوں والی زمین۔
المَنْھُوس (مفع): کم گوشت والا۔ دبلا۔ رجلٌ
مَنْھُوسُ القدمین: رگ دار پاؤں والا۔
نہش: ۱۔ نَھَشَ ـ نَھْشاً: کا گوشت اگلے دانتوں سے
نوچنا، کو سانپ کا ڈسنا۔ ـ ہُ الدھرُ: کو زمانہ کا مصیبت
زدہ اور مفلس بنانا۔ نُھِشَ وانْتَھَشَ ت اعضاءُ نا:
کے اعضا کا لاغر و دبلا ہونا۔ النَھاوِش: مظالم۔
نَھِشُ الیدین او القوائم: ہاتھ پاؤں کا پھرتیلا۔
المَنْھُوش (مفع): مصیبت زدہ دبلا آدمی۔
۲۔ نُھْشِلَ الرجلُ: بوڑھا ہونا۔ ـــ الشیَٔ: کو حرص سے
کھانا۔ ـــ فلاناً: کو دانتوں سے کاٹنا۔ النَھْشَل
مونث نَھْشَلَة (ح): بھیڑیا (ح) شکرا۔ بوڑھا فرتوت
۞ نَھَشَ ـ نَھْشاً ہ: کو دانت سے کاٹنا، کو اچانک کاٹ
کھانا، دانتوں سے پکڑنا۔ ـ ہ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کی
دھجیاں بکھیرنا، کی صورت بگاڑ دینا، کو مار مار کر صورت
مسخ کر دینا۔ نَھّاش: جھلا، زود رنج، طعنہ آمیز۔
طنزیہ نشتر آسا، کاٹنے والا، چبھتا ہوا، تیز۔
نہض: ۱۔ نَھَضَ ـ نَھْضاً ونُھُوضاً: کھڑا ہونا۔ ـــ عن
مکانہ: اپنی جگہ سے اٹھنا۔ ـــ الی عدوّہ: دشمن پر
تیزی سے حملہ کرنا۔ ـــ النبتُ: پودے کا سیدھا کھڑا
ہونا۔ ـ للامر: کام کے لئے مستعد ہونا۔ ـ الطائرُ:
پرندہ کا اڑنے کے لئے پر پھیلانا۔ ـ نھضاً الشیبُ
فی الشباب: بڑھاپا جلد شروع ہونا۔ نَاھَضَ
مُناھَضَةً قِرنَہٗ: حریف کا مقابلہ کرنا۔ اَنْھَضَ ہٗ: کو
اٹھانے کے لئے ہلانا اور کھڑا کرنا۔ ـــ تِ الریحُ
السحابَ: ہوا کا بادلوں کو چلانا۔ ـــ القربةَ: مشک کو
لبالب بھرنا۔ ـــ ہُ بالشیَٔ: کو کچھ اٹھانے کیلئے تقویت
پہنچانا۔ تَناھَضَ القومُ فی الحرب: جنگ میں
ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اِنْتَھَضَ: کھڑا ہونا۔ ـــ
فلاناً للامر: کو کام کے لئے کھڑا کرنا۔ ـــ القومُ:
لوگوں کا لڑنے کیلئے کھڑا ہونا۔ اِستَنْھَضَ ہُ لکذا: کو
کسی کام کیلئے اٹھانا، اٹھنے کا حکم دینا۔ الناھِض (فا):
اڑنے کے قابل پرندے کا چوزہ کہا جاتا ہے عامِلٌ
نَاھِضٌ: چست مزدور گھوڑے کے بازو کے اوپر کا
گوشت۔ مکانٌ ناھِضٌ: اونچی جگہ۔ ناھِضَةُ
الرجُلِ جمع نَواھِض: انسان کے باپ کی اولاد و
راس کے خادم جو اس کے لئے غضبناک ہو کر اس کے
ساتھ اٹھ کھڑے ہوں اور اس کا حکم بجا لائیں۔
النَھْض (مص): سخت زمین۔ ـــ جمع اَنْھُض من
البعیر: اونٹ کے مونڈھے اور کندھے کا درمیان کا
حصہ۔ النَھْضَة جمع نِھاض: ایک بار کا اٹھنا، کھڑا
ہونا، طاقت، قوت، زمین کی چڑھائی، کہا جاتا ہے:
کان منہ نھضةٌ الی کذا: کی کسی طرف حرکت۔
ھو کثیرُ النَھَضات: وہ بہت حرکتیں کرنے والا
ہے۔ النِھاض: سرعت۔ ـــ من الطریق: دشوار
راستے۔ النَھّاض: بہت کھڑا ہونے والا۔ گردن۔
مکانٌ نَھاض: بلند جگہ۔ النَواھِض: اونٹوں کی
ہڈیاں اور مضبوط حصے۔
۲۔ نَھَضَ ـ نَھْضاً فلاناً: پر ظلم کرنا۔ النَھْض: ناانصافی،
ظلم۔
۞ نَھَضَ ـــ نَھْضاً ونُھُوضاً عن: (نشست، بستر
وغیرہ) سے اٹھنا۔ ـــ ت الطائرةُ: جہاز کا اڑان کے
لئے زمین سے اٹھنا۔ ـــ الی: پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر
دبوچ لینا۔ ـــ ب: کو اٹھانا، اونچا کرنا، لیجانا، جاری
رکھنا، کو عمل میں لانا، انجام دینا، دلیری سے حملہ کرنا،
ہاتھوں میں لینا، کو ترقی دینا، بڑھانا، کی حوصلہ افزائی
کرنا۔ کو قوت دینا، میں نئی زندگی لانا، کے لئے
جدوجہد کرنا، کا مقصد لینا، کی تائید کرنا، حمایت کرنا، کی
حفاظت کرنا، کیلئے جان لڑا دینا۔ ـــ علی: کے خلاف
اٹھ کھڑا ہونا، سے بغاوت کرنا، کے خلاف بغاوت
کرنا۔ ـــ ل: کے لئے تیار ہونا، کو شروع کرنا، کی ذمہ
داری لینا، کا بیڑا اٹھانا، کا آغاز کرنا۔ ـــ: (بحث کا)
مناسب، موزوں، برجستہ، برمحل یا متعلقہ ہونا۔ نَھَضَ
قائماً: وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ـــ نھض بالامر: اقتدار
حاصل کرنا، قیادت سنبھالنا، ہاتھ میں لینا، نَھَضَتِ
الحجةُ ب: کے حق میں ثبوت مسلم ہوگیا ہے۔ نَھَضَ
بالخسائر والضحایا: نقصانات اور جانی قربانیوں
کی ذمہ داری بخوشی اٹھا لینا۔ ناھَضَ ہ: کا مقابلہ کرنا،
کی مخالفت کرنا، کے مقابلہ میں آنا، کو خاطر میں نہ لانا،
سے جھگڑا کرنا۔ اَنْھَضَ ہ: کو اٹھنے کے لئے کہنا، کو جگانا،
ابھارنا، ہوشیار کرنا، کی ہمت بندھانا، کو جوش دلانا، میں
روح پھونکنا، جوش پیدا کرنا، کو اندر ہی اندر سمجھانا۔
تناھَضَ: اٹھ کھڑا ہونا، اٹھنا۔ اِنْتَھَضَ: اٹھنا، اٹھ کھڑا
ہونا۔ اِستَنْھَضَ ہ الی: کو کیلئے جگانا، ابھارنا، اکسانا،
شہ دینا، میں کے لئے تحریک پیدا کرنا، ہیجان پیدا کرنا،
کو کیلئے جرأت دلانا کی کیلئے ہمت بڑھانا۔ نَھْض:
جھنجھوڑ کر چونکا دینے والا حادثہ، انتباہ، افزائش،
چڑھائی، اونچا اٹھنا، تجارت کی اچانک گرم بازاری،
ترقی۔ نَھْضَة جمع نَھَضات: اٹھنا، اٹھ کھڑا ہونا،
(قومی) بیداری، افزائش، بازاری ہلچل، تجارتی گرم
بازاری، ترقی، پھر سے جی اٹھنا، پھر شاداب ہو کر
پھوٹنا، پھر زندہ ہونا، اعادہ، احیاء، دوبارہ رواج پانا،
حیات نو، دوسرا جنم، دوسری بار پیدائش، دوسرا روپ،
دوسرا ظہور، نشاۃ ثانیہ، علوم و فنون کے احیاء کا زمانہ،
احیاء، دور ترقی (روحانی) تحریک، قابلیت، طاقت،
بل، زور، استعداد۔ عیدُ النھضہ: قومی بیداری کا
دن جو عراق میں 9 شعبان کو منایا جاتا ہے۔ نُھُوض:
اٹھنا، بڑھنا، احیاء، حیات نو، تقویت، تجدید، بحالی،
سرفرازی، ترقی، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی۔ نھوضٌ
ب: کو چلانا۔ مُناھَضَة: مقابلہ، مزاحمت، مخالفت،
ناھِض: نکلتا ہوا، اٹھتا ہوا، پھرتیلا، چست، ہوشیار،
سرگرم، مختتی، مستعد، طاقت ور، توانا، باہمت۔ دلیلٌ
ناھِضٌ: فیصلہ کن ثبوت، زوردار، قوی، معقول یا دل
کو لگتی ہوئی شہادت یا ثبوت۔
نہط: نَھَطَ ـ نَھْطاً ہُ بالرمح: کو نیزے سے مارنا۔
نہف: نَھِفَ ـ نَھَفاً الرجُلُ: حیران ہونا۔
نہق: ۱۔ نَھَقَ ـِـ ونَھِقَ ـَـ نَھْقاً ونَھِیقاً ونُھاقاً وتَنْھاقاً
الحمارُ: گدھے کا رینگنا۔ صفت۔ ناھِق، تَناھَقَ
تِ الحُمُرُ: گدھوں کا مل کر رینگنا۔ ناھِقُ الحِمار
ونَواھِقُہٗ: گدھے کا گلا۔ واحد: ناھِقَة۔ النَواھِق
والناھِقان (ع ا): کھر دار جانوروں کے جبڑے کی
دو ابھری ہوئی ہڈیاں۔ انہیں نواھق بھی کہا جاتا ہے۔
۲۔ النُھَق (ح): ایک پرندہ۔ ـــ والنھق واحد نُھَقَة
ونَھَقَة (ن): ایک پودا۔
نہک: ۱۔ نَھِکَ ـ نَھْکاً ونَھاکَةً الثوبَ: کپڑے کو پہن
کر بوسیدہ کرنا۔ ـــ من الطعام وفیہ ہ: کو بہت کھانا
کھانا، ـــ عِرضَ فلان: کو بہت گالیاں دینا، کی بہت
آبرو ریزی کرنا۔ ـــ ہ: پر غالب آنا۔ الضَرعَ بھن
کا تمام دودھ لینا۔ ـــ ت الحُمّیٰ فلاناً: کو بخار کا دبلا
کر دینا۔ ـــ الشرابُ فلاناً: کو شراب کا دبلا کر
دینا۔ ـــ ت الابلُ ماءَ الحوض: اونٹوں کا تالاب کا
سارا پانی پی لینا۔ نَھِکَ ـــ نَھْکاً ونَھْکَةً ہ: کو سخت
سزا دینا۔ ـــ نَھْکاً فلانٌ الشرابَ: شراب ختم کر
دینا۔ ـــ نَھْکاً ونَھَکاً ونَھْکَةً ونَھاکَةً الحُمّیٰ
فلاناً: کو بخار کا دبلا کر دینا۔ نُھِکَ نَھْکاً: لاغر و دبلا

ہونا صفت منہوك نَهُكَ ـــ نَهَاكَةً: دلیر و بہار ہونا۔ أنْهَكَ هُ کو سخت سزا دینا۔ کو تھکا دینا۔ اِنْتَهَكَتْـهُ الحُمّىٰ: کو بخار کا لاغر و دبلا کرنا۔ ـــ فلانٌ الحرمَةَ: کا تقدس پامال کرنا۔ ـ الشئَ کا تقدس ختم کرنا۔ ـ فُلانًا: کی آبرو ریزی کرنا۔ الناهِك (فا): ہر چیز میں مبالغہ کرنے والا۔ النَهْك (مص): بحر رجز میں دو ثلث حذف کرنا۔ بقیہ کو منہوك کہا جاتا ہے اور یہ مستفعلن مستفعلن پر مشتمل ہوتا ہے۔
النَهْكَة: نهك کا اسم مرة، بیماری کا اثر لاغری و کمزوری کی صورت میں۔ بدت فیه نَهْكَةُ المرض: اس میں بیماری کا اثر یعنی لاغری اور کمزوری ظاہر ہوئی۔
النَهُوك: دلیر، بہادر۔ النَهِيك: ہر چیز میں مبالغہ کرنے والا۔ دلیر۔ بہادر۔ طاقت ور اونٹ۔ شمشیر بران، کہا جاتا ہے۔ سيفٌ نَهِيكٌ: شمشیر بران۔
المَنْهُكَة: کمزوری کا باعث، تھکن و ناتوانی کا باعث، کہا جاتا ہے: هذا مَنْهُكَةٌ للأعراض: یہ آبرو ریزی کا سبب ہے۔

۲۔ النَهِيك: اچھے خلق والا۔ ـــ والنُهَيك (ح): پردار کیڑا جیسے پسو جو جانوروں میں پایا جاتا ہے۔

○ نَهَكَ ـــ نَهَاكَةً هـ کو صرف کرنا، خرچ کرنا، کو سارا استعمال کر لینا، ختم کر ڈالنا، تھکا دینا، کو کچل ڈالنا، کا کچومر نکال دینا، کا بھرکس نکال دینا۔ ـــ نَهْكًا و نَهِكَ ـ نَهْكًا و نَهْكَةً هُ: کو کمزور کرنا، دبلا کرنا، لاغر کرنا، گھلانا، نحیف کر دینا، کے اوسطان خطاں کر دینا، کو ضائع کرنا، کی طاقت ختم کر دینا، کو تھکا دینا۔ نَهِكَ و نُهِكَ: خود بخود چلا جانا، تھک جانا، ختم ہو جانا، خرچ ہو جانا، صرف ہو جانا، کمزور ہو جانا، پتلا، دبلا، نحیف و نزار ہو جانا۔ نَهَكَ عِرضَهُ: کو بے عزت کرنا، کی عزت کو ٹھیس پہنچانا، انْهَكَ ہ: کو کمزور کر دینا، نحیف کر دینا، کو تھکا دینا، لاغر کر دینا، کو برباد کرنا، اجاڑ دینا۔ انْتَهَكَ ہ: کو برباد کرنا، اجاڑ دینا، کمزور کرنا، تھکا دینا۔ ـ ـ هـ: کی خلاف ورزی کرنا، کی بے ادبی کرنا، کی بے حرمتی کرنا، قانون شکنی کرنا، کو غلط یا ناجائز استعمال کرنا، بے عزتی کرنا۔ ـــ ها: (عورت کی) عصمت دری کرنا۔ ـــ ہ: کی توہین کرنا، بے عزتی کرنا، ہتک، اہانت، ہیکی کرنا، کو ذلیل کرنا، بدنام کرنا، رسوا کرنا، کی بدگوئی کرنا، حیثیت عرفی کرنا، کو خواہ مخواہ بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا، پر تہمتیں دھرنا، پر تہمت لگانا، سے بری طرح سے پیش آنا، سے بدسلوکی کرنا، کو گالی دینا، سے سخت کلامی کرنا، پر دشنام طرازی کرنا، کو وحشی بنانا۔ لا يُنْتَهَكُ: پکا، استوار، مقدس، جس کی حرمت قائم رکھنی پڑے، حرام، محرم، متبرک، حرمت والا۔ نَهْك: کمزور کرنا، تھکا دینا، فرسودگی، استعمال، صرف، خرچ، خاتمہ، خرچ شدہ مقدار، سخت کمی، سخت تھکاوٹ، غلط یا ناجائز استعمال، خلاف ورزی، بے حرمتی، بے عزتی، بدسلوکی، سخت کلامی، دشنام طرازی، دشنام، گالی۔ نَهْكَة: سخت تھکاوٹ، لاغری، دبلاپن، ضیاع۔ انهاك: سخت تھکاوٹ، تھکا دینا، خالی کرنا۔ اِنْتِهاك: کمزور کرنا، تھکا دینا، فرسودگی، خرچ، استعمال، صرف، خاتمہ، سخت کمی، غلط یا ناجائز استعمال، خلاف ورزی، بے حرمتی۔ انتهاك الحُرمَة: (مقدس چیز کی) بے حرمتی انتهاك العَوْرَة: گناہ جو اخلاقی خباثت کا نتیجہ ہو۔ مُنْهِك: تھکا دینے والا۔

نهل: ۱۔ نَهِلَ ـ نَهَلاً و مَنْهَلاً الإبلُ: اونٹوں کا پہلی بار کا پینا۔ أنْهَلَ الإبلَ: اونٹوں کو پہلی بار پانی پلانا۔ ـ القومُ: قوم کے اونٹوں کا پہلی بار پانی پینا۔ انْهَلُوا زَرْعَهُم: کھیتی کو پہلی بار سیراب کرنا۔ الناهِل (فا) جمع نَهَلٌ و نُهَّل و نُهُول و نَهَلَةٌ و نَهْلَى و نِهال: سیراب۔ الناهِلة جمع نِهال و نَوَاهِل: ناهِل کا مونث۔ چشمہ کی طرف آنے جانے والے۔ النَهَل (مص): ناهِل کی جمع۔ پہلی بار کا پینا۔ وہ خوراک جو کھائی جائے۔ النَهْلان جمع نَهْلَى: پینے والا، سیراب۔ المِنْهال: بہت پانی پلانے والا۔ بہت فیاض۔ المَنْهَل جمع مَنَاهِل: گھاٹ، چشمہ، پیا، راستہ پر پانی پینے کی جگہ۔

۲۔ نَهِلَ ـ نَهَلاً و مَنْهَلاً الإبلُ: اونٹوں کا پیاسا ہونا۔ الناهِل جمع نَهَلٌ و نُهَّل و نُهُول و نَهَلَة و نَهْلَى و نِهال: پیاسا۔ النَواهِل: بھوکے اونٹ۔ النَهْلان جمع نَهْلَى: پیاسا۔ ابلٌ نَهْلَى: بھوکے اونٹ۔

۳۔ انْهَلَ فلانا: کو غضبناک کرنا۔

۴۔ المِنْهال: اونچا ٹیلہ جس کی ریت گرتی رہے۔ قبر۔

○ نَهِلَ ـ نَهَلاً و مَنْهَلاً: پینا۔ نَهْلَة جمع نَهَلات: پانی، شربت، شراب، پینے کی چیز، بادہ، گھونٹ وہ مقدار جو ایک مرتبہ نگلی جاسکے۔ مَنْهَل جمع مَنَاهِل: پانی پینے کا گھاٹ، چشمہ، جوہڑ۔

نهم: ۱۔ نَهَمَ ـ نَهْمًا و نَهْمَةً و نَهِيمًا الإبلَ: اونٹوں کو چلنے میں مشتاق بنانے کیلئے ڈانٹنا۔ ـــ نَهْمًا و نَهِيمًا الفيلُ: ہاتھی کا چنگھاڑنا۔ ناهَمَ مُناهَمَةً هُ: کے ساتھ مل کر آواز نکالنا۔ انْتَهَمَ: جھڑکی کھانا۔ الناهِم (فا): چیخنے والا، چلانے والا۔ النُهام جمع نُهُم (ح): الو، راہب۔ النِهامِيّ و النُهامِيّ: راہب۔ النَهّام (ح): شیر۔ النَهّامَة (ح): شیر۔ النَهِيم: ہاتھی کی دھاڑ۔ ہاتھی کی چنگھاڑ، شیر کی دھاڑ۔ المِنْهام من الابل جمع مَنَاهِيم: ڈانٹ پر سدھی ہوئی اونٹنی۔

۲۔ نَهِمَ ـ نَهَمًا: بہت کھانا۔ نَهِمَ ـ نُهِمَ نَهْمًا و نَهامَةً فی الاكل: کھانے میں حریص ہونا۔ ـــ فلانٌ فی الشئ: چیز کا مشتاق ہونا۔ النَهِم: حریص۔ پیٹو۔ النَهْمَة (مص): منهم کا اسم مرة۔ حاجت، سخت خواہش، کہا جاتا ہے: لهُ فی هذا الامر نَهْمَةٌ: وہ اس معاملہ کی سخت خواہش رکھتا ہے۔ قَضَىٰ منه نَهْمَتَهُ: اس نے اس سے اپنی شدید خواہش پوری کی۔ النَهّام: مبالغہ کا صیغہ۔ شیر۔ النَهّامَة: نَهّام کا مونث۔ شیرنی۔ النَهِيم: حریص پیٹو۔ المَنْهُوم (مفع): حریص۔ مشتاق، فریفتہ کہا جاتا ہے: هو منهوم بالمال: وہ مال کا حریص ہے، مشتاق یا پر فریفتہ ہے۔

۳۔ النَهامِيّ: نون کی تثلیث کے ساتھ، لوہار، بڑھئی۔ النِهامِيّ و النُهامِيّ: ہموار راستہ۔ النَهّام: واضح راستہ کا بیچ۔

○ نَهِمَ ـ نَهَمًا و نَهَامَةً: بے حد بھوکا ہونا، بڑا لالچی ہونا، سیراب نہ ہونے والا ہونا۔ ـــ فی: کا حریص، لالچی ہونا۔ نَهَم: بے حد بھوک، ندیدگی، بہت اشتیاق۔ نَهْمَة: بڑھتی ہوئی خواہش۔ طلب، حرص، طمع، لالچ، دلدادگی، شیفتگی۔ نَهِم: لالچی، حریص، مشتاق، دلدادہ، شیفتہ، سیراب نہ ہو سکنے والا، بہت بھوکا، ندیدہ، کھاؤ، پیٹو، پرخور، نفیس خوراک کا شائق، خوش خور۔ نَهِيم: لالچی، حریص، طامع، مشتاق، دلدادہ، شیفتہ، بہت بھوکا، ندیدہ، بہت شائق، کھاؤ، پیٹو، پرخور، نفیس خوراک کا شائق، خوش خور۔ مَنْهُوم: لالچی، حریص، مشتاق، دلدادہ، شیفتہ، سیراب نہ ہو سکنے والا۔ ـ ب: کا حریص، کا خواہاں، خواستگار، شائق، طالب۔

نهو: نَهَا يَنْهُو نَهْوًاهُ: کو روکنا، منع کرنا۔

نهى: ۱۔ نَهَى يَنْهَى نَهْيًاهُ عن كذا: کو سے، عمل یا قول سے، روکنا، منع کرنا صفت مذکر: ناهٍ صفت مونث ناهِيَة اور جس سے روکا جائے وہ مَنْهِيّ عَنْهُ ہے۔ اسم النُهْيَة۔ ـ اللّٰهُ عن كذا: اللہ کا کسی چیز کو حرام کرنا، کہا جاتا ہے هو رجلٌ نَهاكَ مِن رجلٍ: وہ ایک آدمی تیرے لئے کسی بھی ایک سے کافی ہے۔ هِيَ امرأة نَهَتْكَ من امرأةٍ: وہ ایک عورت تیرے لئے کسی دوسری عورت سے کافی ہے۔ هما رجلانِ نَهَياكَ من رجلين: وہ دو مرد تیرے لئے کوئی سے دو مردوں سے کافی ہیں۔ هُمْ رجالٌ نَهَوكَ من رجالٍ: وہ مرد تیرے لئے کئی مردوں سے کافی ہیں۔ ـــ اليه

الخبرُ: تک خبر کا پہنچنا۔ (یہ نُہِیَ بصیغہ مجہول سے کم مستعمل ہے) نَہِیَ ـ نَہِیَ ـ نَہِیًّ عن الحاجۃ: حاجت چھوڑ دینا، خواہ اس کو حاصل کیا ہو یا نہ۔ نَہُوَ یَنْہُو نَہَاوَۃً: بہت ذہین ہونا۔ نُہِیَ الیہ الخبرُ: تک خبر کا پہنچنا۔ نَہّیَ تَنْہِیَۃً ہٗ: کو روکنا، منع کرنا۔ ـــ الشیْ: چیز کا نہایت تک پہنچنا۔ ـــ الیہ الخبرَ: خبر کو اس تک پہنچانا۔ اَنْہَی اِنْہاءً الشیْ: چیز کو پہنچانا۔ ـــ الامرَ اِلی الحاکم: حاکم کو معاملہ سے مطلع کرنا۔ ـــ الرجُلُ من اللحم: گوشت پر اکتفاء کرنا اور پیٹ بھر کر کھانا۔ کہا جاتا ہے۔ طَلَبَ حاجۃً حتی اَنْہَی عنہا: ضرورت کا طالب ہو کر اسے ترک کر دینا، حاصل کر کے یا بلا حصول۔ تَنَاہَی تَنَاہِیًا الشیْ: چیز کا اپنی نہایت کو پہنچنا۔ ـــ الماءُ: پانی کا تالاب میں رکنا اور ٹھہر جانا۔ ـــ الخبرُ: خبر کا پہنچنا۔ ـــ عن الشیْ: سے رکنا۔ ـــ القوم عن المنکر: برے کام سے بعض کا بعض کو روکنا۔ اِنْتَہَی اِنْتِہاءً عن الشیْ: سے رکنا۔ ـــ الشیْ: چیز کا اپنی نہایت کو پہنچ جانا۔ ـــ الیک المثلُ او الخبرُ: تک ضرب المثل یا خبر پہنچنا۔ ـــ بفلان الی موضع کذا: کو کسی جگہ پہنچانا۔ اِسْتَنْہَی استنہاءً ہٗ: کو باز رہنے کے لئے کہنا۔ استنہیْتُ فلانًا من فلان: میں نے فلاں شخص سے کہا کہ فلاں شخص کو مجھ سے باز رکھے۔ النَاہِی (فا) جمع نُہَاۃ: پیٹ بھرا۔ سیراب۔ کہا جاتا ہے: ناہِیکَ بزیدٍ فارسًا: تمہارے لئے شہسوار زید کافی ہے۔ ھذا رجُلٌ ناھیکَ من رجل: یہ آدمی کسی اور آدمی سے تمہارے لئے کافی ہے۔ یہ کلمہ تعجب ہے اور مدح کے موقع پر بولتے ہیں۔ پھر کثرت استعمال کی وجہ سے ہر تعجب پر بولا جانے لگا۔ اسم فاعل ہونے کی وجہ سے مونث، مثنی اور جمع کے صیغے آتے ہیں، چنانچہ آپ کہتے ہیں۔: ھذہ امرأۃ ناھیتُک من امرأۃ وغیرہ وغیرہ۔ یہ عورت دوسری عورت سے تمہارے لئے کافی ہے صفت ہونے کی وجہ سے ناھِیکَ و ناھیتُک آتے ہیں۔ الناھیۃ جمع نواہٍ: ناہی کا مونث۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ مالہٗ ناھیۃ: فلاں شخص کے پاس عقل نہیں جو اسے بری بات سے روکے۔ ماتنہاہُ عنا ناہِیَۃٌ: جو تم ہم سے روکتے ہو وہ پابندی ہے۔ ماینظر فی اوامر اللّٰہ و نواھیہ: وہ اللہ کے اوامر و نواہی پر غور نہیں کرتا۔ النِہاء: چیز کی غایت اور آخر، انداز، مقدار۔ ھُم نِہاءُ مائۃٍ: وہ سو کے قریب ہیں۔ ـــ من النہار والماء: دن اور پانی کی چڑھائی۔ بلندی۔ النُہاء: پانی کی چڑھائی۔ انداز۔ مقدار کہا جاتا ہے۔ ھُمْ نُہاءُ مائۃٍ: وہ سو کے قریب ہیں۔ نفسٌ نُہاۃٌ: کسی چیز سے رکنے والا نفس۔ النِہایۃ جمع نِہایات: کسی چیز کی غایت اور آخر۔ آخری حد یا درجہ۔ نِہایاتُ الدار: گھر کے حدود۔ النَہُوّ: منع کرنے والا۔ ھو نہوٌّ عن المنکر امور بالمعروف: وہ برائی سے روکنے والا اور امر بالمعروف کرنے والا ہے۔ النَہْیُ (مص) عند النحاۃ: نحویوں کے نزدیک طلب ترک فعل اس کے لئے لا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے لا ناھیۃ کہتے ہیں۔ ھل رجُلٌ نَہْیُکَ مِن رَجُلٍ: کیا کوئی مرد تیرے لئے کسی مرد سے کافی ہے۔ مصدر ہونے کی وجہ سے اس کی تانیث، تثنیہ اور جمع نہیں آتی ـــ والنِہیُ جمع اَنْہٍ وانْہاء ونُہِیّ ونِہاء: تالاب، یا تالاب نما کوئی چیز۔ النِہی والنِہی جمع نَہُون ونِہُون: کامل العقل۔ ھو نِہٌ ونِہٍ: وہ کامل العقل ہے۔ النُہَی، النُہْیَۃ کی جمع۔ عقل۔ النُہْیَۃ جمع نُہًی: النُہْی کا اسم۔ عقل۔ میخ کے سرے کا سوراخ، چیز کی غایت اور اس کا آخر ناقۃٌ نِہْیَۃٌ: انتہائی موٹی اونٹنی۔ النِہِیُّ جمع اَنْہِیاء: انتہائی موٹا۔ فلانٌ نَہِیٌّ فلان: فلاں شخص فلاں شخص کو روکتا ہے۔ رجُلٌ نَہِیٌّ: کامل العقل مرد۔ التَنْہاۃ والتَنْہِیَۃ من الوادی جمع تَنَاہٍ: وادی کا آخری کنارہ۔ التُنْہَاۃ: سیلاب روکنے کا بند۔ المَنْہاۃ: نہایت عقل، گناہ سے دور رہنے کی حالت۔ رجُلٌ مَنْہاۃٌ: عقلمند اچھی رائے والا آدمی۔ المُنْتَہَیَ: نہایت۔ مَنَاہِیُ الشرع: وہ کام جن سے شرع روکتی ہے۔

۲۔ النِہاءُ: سفید رنگ کا پتھر جو سنگ مرمر سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ موتیوں کی ایک قسم النِہاء: شیشہ۔ صراحیاں، یا لمبی گردن کی بوتلیں۔ النِہَی: شیشہ

○ نَہَا ـ نَہْوًا ونَہَی۔ نَہْیًا ہٗ عن: کو کچھ کرنے سے روک دینا، منع کرنا، پر کچھ کرنے کی پابندی لگانا، کو سے محروم کرنا، کو کیلئے مردود قرار دینا، نُہِیَ اِلی: (خبر کا) کے پاس آنا، تک رسائی حاصل کرنا، تک پہنچنا، کے علم میں آنا۔ انْہَی ہ الی: کو تک لیجانا، کو تک پہنچانا، کو کے پاس بھیجنا، ارسال کرنا، منتقل کرنا، کو کی اطلاع دینا، خبر دینا۔ کو کے علم میں لانا، کو سے مطلع کرنا، آگاہ کرنا۔ ـــ ہ: کو ختم کرنا، مکمل کرنا، کو طے کرنا، کا فیصلہ کرنا۔ تَنَاہَی: ختم ہو جانا (امتداد وقت کا) ایک بلند درجہ حاصل کرنا۔ ـــ الی: کے پاس آنا، کے پاس جانا، تک پہنچنا۔ ـــ عن: سے باز رہنا، احتراز کرنا، کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، کو کرنے سے رک جانا۔ تَنَاہی الی اسماعہم: کے سننے میں آنا، کے علم میں آنا

اِنْتَہَی: ختم ہونا، طے ہو جانا، فیصلہ ہو جانا، (مقررہ وقت کا) ختم ہو جانا۔ اِنْتَہَی ب: کے ذریعے، میں یا کے ساتھ ختم ہونا۔ ـــ عن: کو ختم کرنا۔ ـــ من: کے ساتھ ختم ہونا، مکمل ہونا۔ ـــ اِلی: انجام کار، آخر کار (ساحل) پر پہنچنا، آخر الامر تک پہنچنا۔ ـــ اِلی ان: ایک ایسے مقام تک آنا جہاں، ایسی جگہ ختم ہونا جہاں، کا انجام ہونا کا نتیجہ ہونا۔ ـــ الی: کے علم میں آنا۔ ـــ ب الی: کو تک لیجانا۔ ـــ عن: سے باز رہنا، رکنا، کو ترک کر دینا، کو کرنے سے رک جانا۔ انتہی الامر اِلی ان: کا نتیجہ یہ تھا کہ، کا مطلب یا مدعا یہ تھا کہ، قصہ مختصر یہ کہ، الحاصل ـــ انتہی بہ الامر إلی أن: وہ اس مقام تک پہنچا جہاں ـــ نَہْی: روک دینا، امتناع، ممانعت، بندش، بندی، قدغن، پابندی، ممنوع قرار دینا، حرام ٹھہرانا۔ النَہْیُ والامر: غیر محدود اور مطلق اختیار، استبدادی، حاکمانہ یا آمرانہ طاقت، حکومت یا اختیار۔ قیادت، اقتدار۔ نَہْیِی: امتناعی، مزاحمتی، مانع، مُہْی، نُہَی: ذہانت، سمجھ، عقل، فہم، فراست، معقول بات، نفس، شعور، ذہن، دماغ، نُہْیَۃ: ذہن۔ نفس۔ شعور، ذہانت، سمجھ، عقل، فہم فراست، دماغ، نِہاءٌ: حد، انتہائی درجہ، نِہایۃ جمع نِہایات: خاتمہ، اختتام، آخری حصہ، آخر، اخیر، انجام، نتیجہ، جتنا زیادہ ہو سکے، انتہاء، غایت، نہایت۔ نِہایۃً: آخر میں، آخر کار، انجام کار، بالآخر، فی النہایۃ: آخر میں، آخر کار، انجام کار، بالآخر۔ اِلی النہایۃ: آخر تک۔ بلانِہایۃ: جاری رہنے والا، غیر مختتم، غیر مختتم طور پر۔ اِلی غیرِ نِہایۃٍ یا اِلی مالا نِہایۃَ لہ: غیر مختتم طور پر، ازل تک، لامتناعی طور پر، ہمیشہ کیلئے، دوامی، غیر مختتم طور پر۔ للنہایۃ: انتہائی حد تک، ازل تک، ابد تک نِہایۃُ الاَرَب: آخری یا بنیادی منزل مقصود۔ النِہایۃ الصُغْرَیٰ: کم سے کم۔ النہایۃُ الکُبْرَی (العُظْمَی): زیادہ سے زیادہ۔ النہایۃُ العُلْیا: بہترین درجہ، سب سے زیادہ مارک (سکول میں) اعلی دَرَجَۃً فی النِہایۃِ الکبْرَی: (درجہ حرارت میں) زیادہ سے زیادہ حتمی درجہ۔ اقلُّ درجۃٍ فی النہایۃِ الصُغْرَی: حتمی کم سے کم درجہ، کان نہایۃً فی الحذق: انتہائی ماہر ہونا۔ نِہائی: انتہائی، زیادہ سے زیادہ، آخری، فیصلہ کن، بنیادی، قطعی، حتمی۔ نِہائیًا: آخر کار، انجام کار، بالآخر۔ اِنذار نِہائی یا بلاغ نِہائی: الٹی میٹم (Ultimatum) حکم نِہائی: آخری فیصلہ۔ عِلاجٌ نِہائیٌ: انتہائی علاج، آخری تدبیر۔ آخری بچنے کا طریقہ۔ فوزٌ نِہائی:

آخری فتح، آخری (شاندار) کامیابی۔ مُبَارَاۃ نِهائی: فائنل میچ، آخری مقابلے (کھیلوں میں) Final۔ لانِهائی: لامتناہی۔ لانهائیة: ازل۔ ابد، بے حد، بے پایاں۔ إنهاء: ختم کرنا، مکمل کرنا، اختتام، تکمیل، تصفیہ۔ فیصلہ، نتیجہ، خاتمہ، توقف، وقفہ، ٹھہراؤ، معطّلی، معلّق ہونا۔ تَنَاهٍ: محدودیت (وقت کے امتداء کا) اختتام۔ اِنتِهاءُ الاجل: زندگی کا خاتمہ، موت۔ ناهٍ: امتناعی، مانع ھذا رجلٌ ناهيكَ من رجلٍ: یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو کسی بھی آدمی کی جگہ لے سکتا ہے۔ ناهيكَ مِن (نیز عن یاب) ــــ: کتنا معقول، خوب، اچھا، عمدہ ہے۔ ــ: کتنا ممتاز، نمایاں، غیر معمولی ہے۔ یا ــــ: کے لئے کافی ہے، اس کا تو ذکر ہی کیا، اسے تو رہنے دو، سب سے بڑھ کر یہ کہ ــ اولاً، مقدم، سب سے پہلے، ابتدائی طور پر، بنیادی طور پر، مثال کے طور پر، لیجئے۔ ناهيكَ ب: یہ کہنا کافی ہے کہ ــ ناهيكَ بان: اتنا کافی ہے کہ...... یہ جاننا کافی ہے کہ...... یہ حقیقت تو رہنے دو کہ...... اس حقیقت کا تو ذکر ہی کیا کہ...... اس حقیقت کا تو ذکر ہی کیا کہ...... اس حقیقت سے قطع نظر کہ ــــ نَاهِيَة: پابندی، ممانعت۔ مَنهيّ: روکا ہوا منع کیا ہوا، ممنوع، ناجائز، محروم کیا ہوا، خلاف قانون، غیر قانونی۔ مُتَنَاهٍ: ختم کیا ہوا، ختم شدہ، محدود، منتہی، انتہائی، حد سے زیادہ فزوں، از حد، بہت زیادہ، مبالغہ آمیز، مبالغہ آمیزانہ۔ غیر متناهٍ: غیر محدود، بے حد، بے کنارا، بے انتہا بڑا، لامحدود، لامتناہی، مُتَنَاهٍ في الدقة: انتہائی یا بے حد پتلا یا باریک۔ ــ: بے انتہا خوبی یا عمدگی والا۔ مُتَنَاهٍ في الصغر: بے حد چھوٹا، بہت ہی رقیق یا باریک۔ مُنتَهٍ: ختم ہونے والا، کم ہونے والا، ختم کیا ہوا، جس کی (قانونی طور پر) مدت گزر چکی ہو۔ مُنتَهىً: ختم کیا ہوا، انتہا، خاتمہ، انتہائی، اعلیٰ درجہ، انتہائی حد۔ بِمُنتَهَى الشدة: انتہائی زور یا طاقت سے۔ في مُنتَهَى الدِقّة: انتہائی باریک۔ بلغ مُنتَهاه: اپنے بلند ترین درجہ پر پہنچنا۔

نوا: ا۔ نَاءَ يَنُوءُ نَوْءًا وتَنْوَاءً: مشقت و تکلیف سے اٹھنا۔ گرنا۔ ــ بالحمل: بوجھ کو مشکل سے اٹھانا۔ ــ به الحملُ: کو بوجھل کرنا، کو بوجھ کا جھکانا۔ ــــ النجمُ: مغرب میں فجر کے وقت ایک ستارہ کا غروب ہونا اور اسی وقت دوسرے ستارہ کا مشرق میں طلوع ہونا۔ ناوأ مُنَاوَاۃً ونِوَاءً ہ: پر فخر کرنا، کا مقابلہ کرنا۔ سے دشمنی کرنا۔ أناءَ إناءَۃً ہ الحملُ: کو بوجھل کرنا، کو بوجھ کا جھکانا۔ إستَنَاءَ إستِنَاءَۃً النجمَ: بمعنی نَاءَ النجمُ ــــ فلانًا: کسی سے عطیہ مانگنا۔ النَوء (مص): نباتات، سبزی۔ ــــ جمع أنواء ونُوءَان وأنْوُء: عطیہ، بخشش، غروب کے لئے جھکنے والا ستارہ۔ بارش۔ کہتے ہیں: صدقَ النَوءُ: مائل بغروب ستارہ سچا ثابت ہوا، یہ اس وقت کہتے ہیں جب بارش ہو کہا جاتا ہے کہ النَوء کا معنی مغرب میں منزل سے ایک ستارہ کا غروب ہونا اور اس کے رقیب ستار کا اسی وقت مشرق میں ہر وقت تیرہ دن تک طلوع ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں ۲۸ ستارے تھے جو سال بھر میں نکلا کرتے تھے۔ ان میں فجر کے وقت تیرہ راتوں تک ایک ستارہ مغرب میں غروب ہو جاتا تھا اور اسی وقت مشرق میں دوسرا ستارہ طلوع ہوتا تھا۔ جاہلیت میں عرب کہتے تھے کہ جب ایک ستارہ غروب ہو اور دوسرا طلوع ہو تو لازمی طور پر اس وقت بارش ہوگی یا ہوائیں چلیں گی اور یوں وہ اس وقت ہر بارش کو اس ستارہ سے منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے: مطرنا بنوء الثریاء او بنوء الدبران: ہم پر ثریا یا دبران کے ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی۔ کہا جاتا ہے: ما بالبادية انواءُ من فلان: ریگستان میں فلاں شخص سے ان ستاروں سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ النوء (عند الملاحین): ہوا کا تیز چلنا اور سمندر کی لہروں کا ساحل سے ٹکرانا۔

المُستناء: عطیہ مانگا ہوا۔

۲۔ نَاءَ يَنُوءُ نَوْءًا وتَنْوَاءً: دور ہونا۔

نَاءَ ــ نَوْءًا ب: (بوجھ کے نیچے) گر جانا، دب جانا، ناکارہ ہونا، ٹوٹ جانا، دھڑام سے گر جانا، شکار ہو جانا، پر بہت بوجھ ہونا۔ نَاءَ بالحمل: مشکل سے بوجھ برداشت کرنا، بوجھ سے گر پڑنا، بوجھ تلے پس جانا۔ نَاءَ بكَلْكَلِهِ: کو المناک طور پر کچل ڈالنا۔ پر بہت بوجھ ڈالنا۔ نَاوَأَہُ: کی مزاحمت کرنا، کا مقابلہ کرنا، مخالفت کرنا، کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کے مقابلہ میں جم جانا، کو خاطر میں نہ لانا، کی اطاعت نہ کرنا، کے ساتھ مقابلہ میں حصہ لینا، سے لڑنا، کشمکش کرنا، سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، سے مسابقت کی سعی کرنا۔ نَاوَأَہُ العَداء: کے خلاف ہونا، کا مخالف ہونا، کا دشمن ہونا، سے عداوت اور دشمنی کا سلوک کرنا۔ أنوَاہ: کو کچلنا۔ نَوْءٌ جمع أنوَاء ونُوان: آندھی جھکڑ، طوفانی ہوا، طوفان، تیز ہوا، طوفان بادوباران، تند ہوا کا جھونکا، طوفانی آندھی، مُنَاوَأَۃ: مقابلہ، تعرض، مزاحمت، مخالفت، سرتابی، ضد، ہٹ، حکم عدولی، سرکشی، نافرمانی، جدوجہد، لڑائی، دنگا، جھگڑا، تنازعہ، مناقشہ، تکرار، نزاع، بیر، اختلاف، جدل وجدال۔

نوب: ا۔ نَابَ يَنُوبُ نَوْبًا ومَنَابًا ونِيَابًا في الامر عن زيد: کا کسی معاملہ میں قائم مقام ہونا۔ نائب ہونا۔ صفت: نائب: معاملہ۔ مَنُوبٌ فيه اور زيد منوب عنه، ــ إليه: کے پاس بار بار واپس آنا۔ کہا جاتا ہے۔ النحلُ تنوب الى الخلايا: شہد کی مکھی اپنے چھتے میں بار بار واپس آتی ہے۔ ــ الى اللّٰه: اللہ کی طرف لوٹنا، توبہ کرنا۔ ــ فلانٌ: اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند رہنا۔ ــــ نَوْبًا ونَوْبَةً فلانًا امرٌ: کو کوئی امر پیش آنا۔ نُوِبَ فلانٌ: کی باری مقرر کیا جانا۔ نَاوَبَ مُنَاوَبَةً ہ: کو سزا دینا، کے ساتھ باری لینا، کے بعد آنا، سے ردل بدل کرنا۔ أنَابَ زيدٌ عنه وكيلاً في كذا: کو کسی معاملہ میں اپنا قائم مقام بنانا، وکیل بنانا۔ زید: مُنِيب: وکیل۔ مُنَاب: معاملہ: مُنَاب فيه: یعنی زید قائم مقام یا وکیل مقرر کرنے والا، وکیل جسے قائم مقام بنایا گیا، معاملہ جس میں کسی کو قائم مقام یا وکیل بنایا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے۔ انبتُهُ مَنابي: میں نے اسے اپنا قائم مقام بنایا۔ ــ إليه: کی طرف بار بار لوٹنا۔ ــ الى اللّٰه: اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، تائب ہونا۔ کہا جاتا ہے: أتاني فلانٌ فما أنبتُ لهُ او اليه: فلاں شخص میرے پاس آیا تو میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تَنَاوَبَ تَنَاوُبًا القومُ على الماء: لوگوں نے پانی کو کنکریوں سے آپس میں تقسیم کیا۔ ــ القومُ الامرَ: کام کو باری باری کرنا۔ ــ بَتْهُ الخطوبُ: کو مصائب زمانہ کا پیش آنا، کہا جاتا ہے: المنايا تتناوبنا: ہم میں سے ہر ایک کو موت اس کی باری پر آتی ہے۔ تَنَاوَبُوا الخطبَ او الامرَ: کام یا معاملہ کو باری باری کرنا۔ إنتَابَهُمْ إنتِيَابًا: کے پاس بار بار آنا، پے در پے آنا۔ فلانًا امرٌ: کو معاملہ پیش آنا۔ ــــ زيدٌ عمرًا: زید کا عمر کا قصد کرنا، یعنی عمر کے پاس جانا۔ إستَنَابَ إستِنَابَةً ہ: کو اپنی نیابت (نائب ہونے) کے لئے کہنا۔ النائب (فا) جمع نُوَّب ونُوَّاب: قائم مقام۔ کہا جاتا ہے: خيرٌ نائبٌ: خیر کثیر۔ ــــ: جمع نُوَّاب: قانون ساز اسمبلی کا منتخب رکن۔ رکن پارلیمنٹ (اع): لیفٹیننٹ۔ ایجوٹینٹ (Adjutant) النائبة جمع نائبات ونوائب: نائب کا مونث، مصیبت، آفت۔ النوائب: حوادث (اچھے یا برے) نوائبُ الرعيّة: پلوں اور سڑکوں کی درستی کے لئے شاہی ٹیکس۔ الحُمّى النائبة: روز آنے والا بخار۔ النُوب واحد نائب: شہد کی مکھیاں النوب (مص: نائب کی جمع۔ ایک دن رات کی منزل، نزدیکی، قوت۔ النَوبَة (مص) جمع نُوَب: فرصت، موقعہ

باری۔ (کہاجاتا ہے: جـاءت نوبتُك: تمہاری باری آگئی) بخار آنے کا وقت (طلب) ـ دولت (جیسے دولت پاکستان) النُّوبَۃ جمع نُوَب: آفت، مصیبت، حادثہ۔ النِیابَۃ (مص): نیابت، باری، کہاجاتا ہے: جاءت نیابتُك: تمہاری باری آگئی۔ المجلس النیابی: پارلیمنٹ (Parliament) المَنَاب (مص): نیابی کی طرف جانے والا راستہ۔ کہاجاتا ہے: نَابَ مناب القاضی: اس نے قاضی کی جگہ لی۔ وہ قاضی کا قائم مقام ہوا۔ المُنیب (فا): بہت بارش، عمدہ بہار۔

۲۔ النُّوب واحد نوبی نوبہ (سوڈان) کی قوم۔ النُّوبَۃ: سوڈان کی قوم۔ صعید (بالائی مصر) کے جنوب میں اس قوم کا ملک۔

⊙ نابَ ـُ نَوْبًا و مَنَابًا و نیابۃً عن: کی نمائندگی کرنا، کی قائم مقامی کرنا، کی وکالت کرنا، کا قائم مقام ہونا، کا بدل ہونا، کے نائب، بدل یا وکیل کے طور پر کام کرنا، کی جگہ لینا، کا جانشین ہونا، کے عہدہ پر کام کرنا، کی طرف سے کام کرنا۔ ـــ الی: کے پاس وقتاً فوقتاً لوٹنا، سے وقتاً فوقتاً ملنا، کے مکان پر بہت دفعہ، بار بار یا اکثر جانا۔ ـــ نَوْبًا و نَوْبَۃً ہ: کو لگنا، پر آپڑنا، پر حملہ کرنا (مصیبت وغیرہ کا)، کو پیش آنا، کے حصہ میں آنا، پر نازل ہونا۔ نَوَّبَ ہ عن: کو کا نائب یا کارندہ، مقرر کرنا، کا نمائندہ، ایلچی یا سفیر بنا کر بھیجنا کو کا نائب، نمائندہ یا وکیل بنانا، کو کا اختیار دینا۔ نَاوَبَ ہ: کے ساتھ باری لینا، کے ساتھ باری باری آنا۔ أَنَابَ ہ عن: کو کا نائب بنانا، کا وکیل بنانا، کو کا قائم مقام بنانا، یا وکیل بنانا، کو کا نمائندہ بنانا، کو کی طرف سے اختیارات دینا۔ ـــ الی وقتًا فوقتًا کے پاس آنا، سے اکثر، بار بار یا کئی بار ملنا، کے پاس بار بار یا اکثر جانا۔ اناب الی اللّٰہ: پشیمان یا نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ تَنَاوَبَ فی / علی / ہ: کسی کام میں باری لینا، کو بار باری کرنا، کو پے در پے یا ایک ایک کر کے ملنا۔ پر پے در پے یا ایک ایک کر کے آپڑنا۔ پر پے در پے یا ایک ایک کر کے مصیبت ڈالنا۔ تناوبَتْہُ الخطوبُ اس نے ایک کے بعد دوسری مصیبت اٹھائی، جھیلی، برداشت کی، سہی۔ اِنتَابَ ہ: پر آپڑنا، ٹوٹ پڑنا، کو گھیر لینا، کو تکلیف میں ڈالنا، ایذا پہنچانا، کو پیش آنا۔ نَوْبٌ جمع نُوَب: تبدیلی، ادل بدل، تبادل، باری، بدل باری، دور، گردش، چکر (کی) باری، وقت، بار (جیسے ایک بار، دو بار) موقع، حالت۔ ـــ جمع نوبات: دورہ (جیسے غشی کا دورہ) حملہ (جیسے بخار کا حملہ) غلبہ (جذبات کا)، بحران (پہرے دار وغیرہ کی) تبدیلی، پہرے دار کا فرض، پہریدار، بگل، سیٹی، موسیقاروں کا طائفہ، ملکی سازندوں کا چھوٹا طائفہ۔ بالنوبۃ: اپنی باری سے، باری باری سے، بار باری، پے در پے، ایک ایک کر کے، یکے بعد دیگرے۔ نوبۃ عصبیۃ: اعصابی حالت کا نازک وقت نوبات المطر: بارش کے وقفے، بارش کے اوقات یا عرصے، جاءت نوبتہ: اس کی باری آئی۔ نَوْبَتْجِی: ڈیوٹی پر، محافظوں کا کمانڈر۔ ڈیوٹی پر موجود افسر۔ نُوَب جمع نوب: آفت، مصیبت، حادثہ، بھاری ضرب۔ نیابۃ: نمائندگی، بدل، قائم مقامی، جانشینی، تبادلہ، مختار کا ذریعہ، برانچ، برانچ آفس، ایجنسی، تفویض، سپردگی (اختیارات)، نمائندگان، استغاثہ، ضلعی اٹارنی جنرل (وکیل اعظم) کا دفتر۔ نیابۃً عن: کی جگہ، کے بجائے، کی بجائے۔ بالنیابۃ: قائم مقام، منصرم، نائب، مختار کے ذریعے۔ مدیر المصلحۃ بالنیابۃ: محکمہ کا ڈپٹی ڈائریکٹر۔ بالنیابۃ عن: کے نام پر، کی طرف سے۔ نیابۃ عمومیۃ: استغاثہ، ضلعی اٹارنی کا دفتر، رئیس النیابۃ: میر مستغیث (Chief prosecuter) وکیل النیابۃ: استغاثہ کا نمائندہ، استغاثہ کا وکیل۔ النیابات المالیۃ: مالی یا مالیاتی تفویضات۔ نیابی: نیابتی، کام یا اختیار تفویض کیا ہوا۔ فرائض یا حقوق سونپا ہوا۔ نمائندہ، پارلیمنٹری۔ حکومۃ نیابیۃ: نمائندہ (پارلیمنٹری) حکومت۔ مجلس نیابی: پارلیمنٹ۔ مَنَاب: جانشینی، قائم مقامی، بدل، قائم مقام، مختار کے ذریعہ انجام دیا جانے والا منصب۔ بطور نائب لی ہوئی جگہ حصہ۔ نَابَ مَنَابَہٗ: کی نمائندگی کرنا، کی جگہ لینا، کی طرف سے کام کرنا۔ مُنَاوَبۃ: گردش، ادل بدل۔ مُنَاوَبَۃً: اپنی باری سے، باری باری سے، ایک ایک کر کے گردش میں، باری پر، پے در پے، یکے بعد دیگرے، ایک ایک کر کے بالمُنَاوبۃ بمعنی مُناوبۃً۔ مُناوبۃ الری: باری باری پانی دینا یا لینا۔ إنابۃ: جواز، حکم، اجازت، وکالت، قائم مقامی، اختیارات کی سپردگی، بطور نائب یا کارکن تقرری۔ انابات قضائیۃ: (عدالت سے عدالت کو) قانونی امداد کی درخواستیں۔ تَنَاوُب: ادل بدل، گردش، فصلی، دوری یا معیادی تبدیلی، تبادل (برقیات) بالتناوب: پے در پے، ایک بعد دوسرا، ایک ایک کر کے، باری باری، نائب جمع نُوَّاب: نمائندہ، کارندہ، مختار، قائم مقام، یکے بعد دیگرے، مندوب، نائب۔ مجاز کارندہ، سارجنٹ Sergeant ۔ قاضی کا نمائندہ، اسسٹنٹ مجسٹریٹ۔ نائبٌ شرعی: قاضی مجاز کا نمائندہ۔ نائب الرئیس: نائب صدر، وائس چیئرمین، نائب (عام یا نائب) عمومی: سرکاری وکیل Public prosecutor۔ نائب العریف: دفعہ دار۔ نائبُ القُنصُل: نائب قونصل۔ نائب المَلِك: وائسرائے۔ نائبٌ مالی: مالیتی مندوب۔ مجلس النُّوّاب: ایوان نمائندگان، پارلیمنٹ۔ نائب: حصہ، کوٹہ، جائیداد کا تقسیم والا حصہ، قانونی حصہ۔ نائبۃ جمع نائبات و نَوَائب: تغیرات، و نشیب فراز (قسمت، جنگ وغیرہ کے) بھاری ضرب، مصیبت، آفت، حادثہ بدبختی، مُنَوِّب: اختیارات تفویض کرنے والا۔ آئین ساز، دستور ساز، ووٹر (Voter) ضابطٌ مُنَوِّب: ڈیوٹی پر موجود آفسر، گارڈ کا کمانڈر۔ مُناوِب: ڈیوٹی پر (خصوصاً آفیسر) مُنیب: تائب، نادم، پشیمان۔ تیار مُتَناوِب: الٹی رو Alternating current

نوت ا۔ نَاتَ یَنُوتُ نَوَتًا: کمزوری سے جھکنا۔ النُّوتِیّ جمع نَوَاتِی: ملاح، جہاز ران۔

۲۔ النُّوتُرُون (ف) برقیہ (Neutron)

⊙ نَاتَ یَنُوتُ نَوْتًا: جھولنا، ہلنا جلنا، ڈگمگانا، لڑکھڑا کر چلنا، کے پاؤں لڑکھڑانا، گرنے کو ہونا۔ نَوْت و نَوْتَۃ و نوتۃ الموسیقی: سُر، سُر کی علامت، سُر کا نشان۔ نُوتَۃ: نوٹ، ریمارک، نوتی جمع نَوَاتِی و نُوتِیَۃ: ملاح، جہاز ران، جہاز کا کپتان۔ نوتی اوّل: کار آموز ملاح، نو آموز ملاح، نوتی مُمتاز: ملاح، جہاز ران۔ نَوَاتِیُ السفینۃ: بحری جہاز کا عملہ۔

نوج: نَاجَ یَنُوجُ نَوْجًا: منافقت کرنا، فریب دینا۔

نوح ا۔ نَاحَ یَنُوحُ نَوْحًا و نُوَاحًا و نِیَاحًا و نیاحۃً و مَنَاحًا ت المرأۃ المیتَ و علی المیت: عورت کا میت پر نوحہ کرنا، بین کرنا، واویلا کرنا، اسم النیاحۃ: نوحہ، بین، واویلا۔ ـــ ت الحمامۃ: فاختہ کا کوکو کرنا۔ صفت نَائِحۃ و نَوَّاحۃ۔ نَاوَحَ مُنَاوَحَۃ ہ: کا سامنا کرنا، کے سامنے کھڑا ہونا، کے روبرو ہونا، کی مخالفت کرنا، کو منہ توڑ جواب دینا، سے ملنا، سے ملاقات کرنا۔ تَنَاوَحَ تناوحًا الجبلان: دو پہاڑوں کا آمنے سامنے واقع ہونا۔ ـــ ت الریاحُ: ہواؤں کا شدت اور تندی سے چلنا، ہوا کا کبھی پروائی کبھی شمالی اور کبھی جنوبی چلنا۔ اِستَنَاحَ اِستِنَاحَۃ الذئبُ: بھیڑیے کا بھونکنا۔ ـــ الرجلُ: زور کر دوسروں کو رلا دینا۔ ـــ فلانًا: کو رلانا۔ ـــ ت المرأۃ: عورت کا نوحہ کرنا۔ رونا۔ النَّائِحۃ جمع نَوح و

انّواح ونُوّح ونَوائح ونائحات :نوحہ کرنے والی۔ النَّوح (مص) جمع ہوکر رونے والی عورتیں۔ النَّوحَۃ :اسم مرہ، میت پر بین۔ نِساءٌ نَوحٌ جمع ہوکر رونے والی عورتیں۔ النَّوحَۃ :اسم مرہ۔ میت پر بین۔ النَّوّاح م نَوّاحَۃ :اسم مبالغہ۔ (ح) قمری کی طرح کا ایک پرندہ۔ النَّیِّحَۃ :بکری یا اونٹنی جس کا نیم کٹا کان لٹکتا چھوڑ دیا گیا ہو۔ المَنَاحَۃ جمع مَناحات ومَناوِح :رونے، بین کرنے کی جگہ، بین۔ نوحۃ۔ کنا فی مناحۃ فلان :ہم وہاں تھے جہاں بین ہورہا تھا۔ المَناحَۃ :عورتیں جو مصیبت پر رونے کیلئے جمع ہوں۔

۲۔ تَنَوَّحَ تَنَوُّحًا الشئُ :جھولنا۔ تَناوَحَ تَناوُحًا تِ الرِیاحُ :ہوا کا تند چلنا۔ النَّوحَۃ :قوت۔

تَناوَحَ :ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔ نَوّاح :نوحہ کرنے والا، بین کرنے والا۔ نَوّاحَۃ :کرایہ پر رونے والی نائحۃ :جمع نَوائح ونائحات :کرایہ پر رونے والی۔ مَناحَۃ :رونا، بین کرنا، نوحہ کرنا۔ نُوح :حضرت نوح علیہ السلام

نوخ :۱۔ نَوَّخَ تَنویخًا اللّٰہُ الارضَ طروقۃً للماء :اللہ تعالیٰ کا زمین کو ہموار کرنا، برداشت کرنے کی طاقت دینا۔ اَناخَ اِناخَۃَ الجملَ :اونٹ کو بٹھانا۔ کہا جاتا ہے: انختُ البعیرَ فبرك :میں نے اونٹ کو بٹھایا تو وہ بیٹھ گیا۔ تَنَوَّخَ واستناخ :اونٹ کا بیٹھنا۔ — فلانٌ بالمکان :کسی جگہ اقامت کرنا۔ البلاءُ او الذل بفلان :مصیبت یا ذلت کا کسی پر نازل ہونا۔ — بہ الحاجۃَ :پر ضرورت عائد کرنا، کو ضرورت مند کرنا۔ اِستَناخَ اِستَناخَۃَ الجملُ :اونٹ کا بیٹھ جانا۔ النَّوخَۃ :اقامت۔ المُناخ :اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ جائے سکونت۔ کہا جاتا ہے ھذا مُناخُ سوءٍ :یہ غیر پسندیدہ جگہ ہے۔ جمع مُناخات :آب وہوا۔ رُت موسم (کہا جاتا ہے) مناخ ھذا المکان طیب او خبیث :اس جگہ کی آب وہوا اچھی یا گندی ہے) جنتری، تقویم، کلنڈر، حال کے عرب، مصنفین اسے کبھی تقویم اور کبھی مطبوخ کہتے ہیں۔ شاید یہ فرانسیسی زبان کے لفظ Almanac سے ماخوذ ہے۔ المَنیخ (فا) :شیر

۲۔ النائخۃ :دور افتادہ زمین۔

نَوَّخ :آرام کیلئے رکنا، اقامت اختیار کرنا۔ اَناخَ ب :کسی جگہ رکنا یا رہنا۔ اناخَ علیہ البؤسُ بکَلکَلِہٖ :سخت مصیبت میں ہونا، سنگین حالت زار میں ہونا۔ اِستَناخ :گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ مُناخ جمع مُناخات :رکنے کی جگہ، راستہ کا پڑاؤ، رہائش گاہ۔ مُناخ ومَناخ :آب وہوا۔ مُناخِی ومَناخِی :آب وہوا سے متعلق۔

نود :۱۔ نادَ یَنُودُ نَودًا و نُوادًا و نَودانًا :نیند میں جھونکے کھانا۔ تَنَوَّدَ تَنَوُّدًا الغصنُ :ٹہنی کا ہلنا۔

۲۔ نَودَلَ نَودَلَۃً الرجلُ :بڑھاپے سے کانپنا۔ النَّودَل :تھن، پستان۔ المُنَودِل :بڑھاپے سے کانپتا ہوا بوڑھا، کہا جاتا ہے: مشی الرجلُ مُنَودِلًا :آدمی لنگڑا کر چلا۔

نادَ یَنُودُ نَودًا ونُوادًا ونَودانًا وتَنَوَّدَ :جھولنا، آگے پیچھے جھولنا، ڈانواں ڈول ہونا۔

نور :۱۔ نارَ یَنُورُ نَورًا ونِیارًا :روشن ہونا۔ — النارُ من بعید :آگ کو دور سے دیکھنا۔ — البعیرُ :اونٹ کو داغنا۔ نورًا و نِوارًا و نَوارًات الفتنۃُ :فتنہ وفساد کا پیدا ہونا اور پھیلنا۔ صفت نائرۃٌ۔ نَوَّرَ تَنویرًا الشئُ :روشن ہونا۔ — المصباحَ :چراغ کو روشن کرنا۔ — الصبحُ :صبح کا روشن ہونا، نمودار ہونا۔ الشجرُ :درخت کا شگوفے نکالنا۔ — الزرعُ :کھیتی کا پکنا۔ — التمرُ :کھجور میں گٹھلی پیدا ہونا۔ — لفلان :کو روشنی دکھانا۔ اَنارَ اِنارَۃً الشئُ :چیز کا روشن ہونا، خوبصورت ہونا، ظاہر ہونا۔ — البیتَ :گھر کو روشن کرنا۔ — المسألۃَ :مسئلہ کی وضاحت کرنا۔ — الشجرُ :درخت کا شگوفے نکالنا، کلیاں نکالنا۔ — اللّٰہُ برھانَہٗ :اللہ تعالیٰ کا کسی کو دلیل سمجھانا۔ اَنوَرَ اِنوارًا الشئُ :چیز کا ظاہر ہونا۔ تَنَوَّرَ تَنَوُّرًا المکانُ :جگہ کا روشن ہونا۔ — النارَ من بعید :آگ کو دور سے دیکھنا۔ — الرجلَ :آدمی کو آگ کے پاس ایسی جگہ سے دیکھنا جہاں سے وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ اِستَنارَ اِستِنارَۃً البیتُ :گھر روشن ہونا۔ — بہ :سے روشنی لینا۔ — النار :رائے، نشان، جہنم۔ جمع اَنوُر و نیران ونیرۃ :آگ مونث ہے کبھی مذکر بھی آتا ہے تصغیر نُوَیرۃ ہے۔ کہا جاتا ہے: اَوقَدَ نارَ الحرب :اس نے لڑائی کی آگ بھڑکائی۔ لاتستضیء بنارِ فلان :فلاں سے مشورہ نہ لو۔ لاتترائی ناراھما :وہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جبلُ النار :آتش فشاں پہاڑ۔ بنو النار :تین شاعر۔ نارُ التھویل :عربوں میں یہ ایک رسم تھی کہ جب معاہدہ کرتے تو آگ جلا کر اس میں نمک ڈالتے نمک جب چٹختا تو اس کو اپنے معاہدہ کی مضبوطی جانتے۔ نارُ القِریٰ :مہمانی کی آگ، عرب رات کو کسی بلند جگہ پر آگ روشن کرتے اور مقصد یہ ہوتا کہ گزرنے والا مسافر اس کو دیکھ کر اس کا رخ کرے۔ یہ آگ جب کسی قدر بلند جگہ پر روشن کی جاتی اسی قدر قابل فخر سمجھی جاتی تھی۔ نارُ الانذار :جنگ کا اعلان کرنے یا جنگ کے لئے لوگوں کو جمع کرنے کی خاطر آگ جلاتے۔ آگ دیکھ کر سب سمت آتے۔ نارُ الاستکثار :زیادتی ظاہر کرنے والی آگ۔ عرب جب کسی سے لڑنے جاتے تو پڑاؤ ڈالتے تو بکثرت آگ جلاتے اور اس طرح کثرت سے جانور ذبح کرتے تاکہ ان دونوں چیزوں کی کثرت سے ان کی تعداد کی زیادتی کا اندازہ لگایا جاسکے۔ النیرانُ المُتحرِکۃ (اع) :توپوں کی آگ یعنی دشمن کی طرف پھینکے جانے والے گولے۔ النارَۃ :(عام زبان میں) جلتی ہوئی لکڑی۔ النَّور (مص) :واحد نَورۃ جمع اَنوار (ز) :کلی۔ النُّور :داغ۔ — جمع نِورَۃ :نباتات کی لمبائی اور خوشنمائی، وہ جو چیزوں کو ظاہر کرے۔ — جمع اَنوار ونیران :روشنی۔ سبتُ النُّور :عید الفصح سے قبل کا ہفتہ کا دن۔ النَّوَر والنَّورۃ واحد نُورِیّ :ایک خانہ بدوش قوم جو ایشیاء، یورپ، افریقہ اور امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ النُّورَۃ :داغ۔ النَّوّار :بہت روشن۔ نُوّار :مئی (مہینہ کا نام) النُّوّار واحد نُوّارۃ جمع نَواوِیر :کلی۔ النَّوّارۃ :ٹارچ، بیٹری۔ النَّیِّر :روشن کرنے والا۔ النَّیِّرۃ :نیّر کا مونث۔ عبرت ناک سزا۔ کہا جاتا ہے: بغاہ اللّٰہ نیّرۃً :اللہ کی مار اس پر ایسی پڑے جو کسی سے پوشیدہ نہ رہے۔ فلانٌ ذُونَیِّرۃٍ :فلاں شخص دور اندیش ہے۔ الاَنوَر :اسم تفضیل :ظاہر، خوش نما۔ ھذا اَنورُ من ذاك :یہ اس سے زیادہ واضح ہے۔ المَنار :روشنی کا مینار۔ مینارہ، راستہ کی رہنمائی کا نشان۔ منزل راہ، دو چیزوں کے درمیان بنائی گئی حد۔ ذُوالمَنار :ابرھہ تبع بن الرائش :جو پہلا شخص تھا جس نے عسکری مہموں میں راستہ میں نشان قائم کئے تاکہ واپسی میں رہنمائی ملے۔ المَنارۃ جمع مَناوِر ومَنائِر :لالٹین۔ لیمپ سٹینڈ، روشنی کا مینار، اذان دینے کا منارہ۔ منارۃُ المراکب :بحری جہازوں کیلئے روشنی کا مینار۔ بغاہُ اللّٰہُ ذاتَ مَنوَر :اس پر اللہ کی مار ایسی پڑے جو روشن ہو اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے۔ المناوِرات واحد مُناوَرۃ (اع) :فوج کی مختلف قسم کے اسلحہ کے استعمال کی مشقیں۔ سیاسی ترغیبات، جوڑ توڑ، چالیں، گھاتیں وغیرہ۔ المُنِیر (فا) :خوش رنگ، چمکدار۔

۲۔ نارَ یَنُورُ نَورًا ونِیارًا القومُ :شکست کھانا۔ — نَورًا ونِوارًا ونَوارًات المرأۃُ :عورت کا شبہ اور تہمت

سے بچنا۔ نَوَّرَ تَنوِیرًا المرأۃ: عورت کو شبہ سے نفرت دلانا۔ نَاوَرَ مُنَاوَرَۃً ہٗ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔ تَنَوَّرَ القومُ: شکست کھانا۔ اِسْتَنَارَ اِسْتِنَارَۃً علیہ: پر فتح حاصل کرنا، غالب آنا۔ المرأۃ: عورت کو شک وشبہ سے نفرت دلانا۔ النَّائِرَۃ جمع نَوَائِر: اسم فاعل مونث، دشمنی، عناد، بغض، کینہ۔ النَّوَار (مص) جمع نُوُر: شک شبہ سے خوفزدہ عورت۔ سانڈ سے بھاگ جانے والی گائے۔ النِّوَار: شک وشبہ وغیرہ سے دوری۔ النَّوُور و النُّؤُور جمع نُور: شک وشبہ سے خوفزدہ عورت۔

۳۔ نَوَّرَ تَنوِیرًا علی فلان: کسی پر کوئی امر مشتبہ کرنا۔

۴۔ تَنَوَّرَ تَنَوُّرًا الرجُلُ: بال اڑانے کا پوڈر ملنا۔ اِنْتَارَ اِنْتِیَارًا و اِنْتَوَرَ اِنْتِوَارًا: بال اڑانے کا پاوڈر ملنا۔ النُّوْرَۃ: چونے کا پتھر۔ بال دور کرنے کا پوڈر۔

۵۔ النَّوُور و النُّؤُور جمع نُور (اصل میں نُورٌ چربی کا دھواں، کاجل۔ ایک کنکری جس کو پیش کر سوز ھے پر لگاتے ہیں۔ النُّورِی: بدمعاش۔ اچکا۔

۶۔ نَوْرَجَ نَوْرَجَۃً: آنے جانے میں مختلف ہونا، چغل خوری کرنے کیلئے آنا جانا۔ النَّوْرَج: ہل کی پھالی۔ غلہ گاہنے کا آلہ۔

۷۔ النَّوْرُوز: فارسی سال کا پہلا دن۔ خوشی کا دن۔

۸۔ النَّوْرَس (ح): کبوتر کے برابر یا اس سے کچھ بڑا آبی پرندہ۔ مرغابی اسے زُمَّج الماء بھی کہتے ہیں۔

○ نَوَّرَ: شگوفے یا پھول نکالنا یا شگوفے دار یا پھول دار ہونا۔ — ہ/ل: کو روشن کرنا، پر روشنی ڈالنا۔ — ہ/ل: کو روشن خیال بنانا، کے لئے مشعل راہ بننا۔ — ہ: لیمپ جلانا، چراغ روشن کرنا۔ اَنَارَ ہ: کو روشن کرنا، (مسئلہ) پر روشنی ڈالنا، کو واضح کرنا۔ اَنْوَرَ: روشنی میں آنا، دکھائی دینا، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، فاش ہونا، منکشف ہونا۔ تَنَوَّرَ: روشن ہونا، روشن خیال ہونا، روشن خیالی حاصل کرنا۔ اِسْتَنَارَ: روشن خیالی کا متلاشی ہونا۔ بصیرت کا طالب ہونا، وضاحت ڈھونڈنا، روشنی پانا، روشن ہونا، جگمگانا، بصیرت حاصل کرنا، وضاحت حاصل کرنا، اطلاع پانا۔ نار (مونث) جمع نِیْرَان: آگ، رائفل کا فائر، بندوق یا توپ کا فائر، آتش، آتش زدگی، بھاڑ۔ جہنم۔ جبل النار: کوہ آتش فشاں، شَرِیط النار: فیوز (Fuse) فتیلہ، شتابہ۔ شیخ النار: شیطان، ابلیس۔ اَشْھَرُ مِن نارٍ علی عَلَم: بہت مشہور۔ کَانَ علی نارٍ: بے چین ہونا۔ نِیرانٌ حَامِیَۃ: بندوق یا توپ کی بھاری باڑھ (heavy fire) نَارِی: آگ کا، شعلہ سا، آتشیں، آگ بگولا، آتش فشاں، جلتا ہوا، لال انگارا، غصے سے لال پیلا، چمکتا ہوا۔ آلۃ ۔۔ یۃ: موٹر ہر وہ گاڑی جو موٹر سے چلتی ہو۔ دَرَّاجَۃ ناریۃ: موٹر سائیکل سلاح ناری: آتشین اسلحہ۔ سَھْمٌ نارِیٌّ: راکٹ (Rocket) طَلْقٌ ناری: فائر (رائفل، بندوق کا) اَلْعَابٌ ناریۃ: آتشبازی۔ مَقْذُوفٌ نَارِیٌّ: گولی، بم، گولی۔ نَوْر (اسم جنس) واحد نَوْرَۃ) پھول، شگوفے۔ نُور جمع اَنْوَار: روشنی، روشنی کی کرن، روشنی کی شعاع، چمک دمک، آب وتاب، چمک تمتماہٹ، دمک، قمقمے، بلب، چراغ، موم بتیاں، دیئے لیمپ، لالٹین۔ (موٹر وغیرہ کی) سامنے کی بتی۔ نُورٌ بَرَّاق: جھلملاتی روشنی، شعلہ فشاں روشنی۔ نُورٌ ثَابِتٌ: یکساں روشنی۔ نُورُ الدَّلَالَۃ: رہنما روشنی۔ نُورٌ کَشَّاف یا نُورٌ کَاشِف: برقی روشنی کی تیز شعاعیں، سرچ لائٹ Search light۔ اَنْوَارٌ خَفِیَّۃ: بالواسطہ روشنیاں اُمُّ النُّور: کنواری مریم سبتُ النُّور: عید فصح سے پہلے کا ہفتہ کا دن۔ عَلَیکَ نُورٌ شاباش۔ مرحبا۔ رَأَی النُّورَ: وجود میں آنا، دنیا میں آنا، پیدا ہونا۔ نُوری: روشنی کا، روشنی جیسا، روشن، تاباں، تابندہ، روشنی دینے والا، چمکیلا، رخشندہ، درخشاں، تابناک، چمکدار۔ نُورَانِی: روشن، تابان، تابندہ، روشنی دینے والا، بصیرت افروز۔ نُورَانِیَۃ: تنویر، درخشانی، تابندگی، آب وتاب، طباعی، ذہانت۔ نَوَر: (اسم جنس): جپسی، خانہ بدوش، آوارہ گرد، مزدوری ڈھونڈنے والے۔ نَوَرِی: خانہ بدوش، آوارہ گرد، مزدوری ڈھونڈنے والا۔ نُورَۃ: چونا۔ بال صفا پوڈر۔ النَّیِّرَان: سورج اور چاند۔ نُوَّار (اسم جنس واحد نُوَّارَۃ) جمع نَوَاوِیر: شگوفے، پھول۔ مَنْوَر جمع مَنَاوِر: (دیوار میں) روشنی کا سوراخ، سقفی روشندان۔ التَّنْوِیر و تَنْوِیرُ العقول: روشن خیالی۔ نَائِرَۃ: نفرت۔ جنگ کا شعلہ۔ مُسْتَنِیر: روشن، روشن خیال، تعلیم یافتہ۔ تعلیم یافتہ شخص۔ مُنَاوَرَۃ: فوجی چال، عسکری حرکت، شنٹنگ (کانٹا بدلنا) داؤں، چال، ساز باز، مُنَاوَرَات: فوجی چالیں حرکتیں۔ مُنَاوَرَات جویۃ: فضائی چالیں، حرکتیں۔

مُنَاوَرَہ (دبلوماسیۃ: سفارتی چال۔ عامل المناورۃ: کانٹا بدلنے والا یا کانٹے والا (Shunter) (ریلوے کی اصطلاح) نُورَسْتَنِیَا: اعصابی کمزوری neurasthemia

نوز: نَوَّزَ تَنوِیزًا ہٗ: کو کم کرنا

نوس: ۱۔ نَاسَ یَنُوسُ نَوْسًا الابلَ: اونٹوں کو ہانکنا۔ — نَوْسًا و نَوَسَانًا الشیءُ: چیز کا جھولنا، کہا جاتا ہے: لہ ضفیرتان تنوسان علی عاتقہ: اس کے دو گیسو اس کے کندھوں پر جھولتے رہتے ہیں۔ نَوَّسَ اِنَاسَۃً الشیءَ: کو حرکت دینا، ہلانا، تَنَوَّسَ الغُصنُ: شاخ کا ہوا سے ہلنا۔ نُوَاسُ العنکبوت: مکڑی کا جالا۔ نُوَاسُ الدُّخان: دھوئیں کا جالا۔ النَّوَّاس م نَوَّاسَۃ: لٹکنے والا۔ النَّوَسَات: چوٹیاں، زلفیں۔ النَّوَّاسَۃ: جلتی ہوئی بتی (چراغ کی) اس کو نُوَیْسَۃ اور طَوَّافَۃ بھی کہتے ہیں۔ دیا۔

۲۔ نَوَّسَ تَنوِیسًا بالمکان: کسی جگہ قیام کرنا۔

۳۔ النَّاس واحد انسان تصغیر نُوَیس: لوگ۔ النَّاؤُوس جمع نَوَاوِیس: نصاریٰ کا قبرستان، پتھر کا تابوت جس میں میت رکھی جاتی ہے۔ المُنَوَّس: سیاہ کنارے والا چھوہارہ۔

○ نَاسَ یَنُوسُ نَوسًا و نَوَسَانًا: جھومنا، جھولنا، ہلنا، ڈولنا۔ نَوَّاس: جھولتا ہوا، پنڈولیم Pendulum۔ نَاؤُوس و نَاءُوس جمع نَوَاوِیس: پتھر کا تابوت۔ نَوْسَرَ: ناسور بنانا۔

نوش: نَاشَ یَنُوشُ نَوْشًا الشیءَ: چیز کو پکڑنا، طلب کرنا۔ — فلانًا: کو سر اور داڑھی سے پکڑنا۔ — زیدًا خیرًا: زید کو بھلائی پہنچانا۔ — فلانٌ من الطعام شیئًا: کو کھانے کی کوئی چیز ملنا۔ — الشیءُ بالشیءِ: چیز کا چیز سے لٹکنا۔ چمٹنا۔ — البعیرُ: اونٹ کا تیزی سے اٹھنا۔ — فلانٌ: کسی کا چلنا۔ نَاوَشَ مُنَاوَشَۃً فلانٌ الشیءَ: فلاں کا چیز کو ملانا، خلط ملط کرنا۔ نَاوَشُوھُم فی القتال: پر لڑائی میں حملہ کرنا۔ تَنَاوَشَ الشیءَ: چیز کو پکڑنا۔ تَنَاوَشُوا بالرماح: نیزہ بازی کرنا۔ اِنْتَاشَ اِنْتِیَاشًا: کو پکڑنا، کو نکالنا، کہا جاتا ہے: اِنْتَاشَہٗ من الھلکۃ: کو ہلاکت سے بچانا۔ النَّؤُوش: قوی۔ رَجُلٌ نَؤُوش: مضبوط آدمی۔

○ نَاوَشَ ہ: کی سے جھڑپ ہونا، کے ساتھ جھڑپ میں مشغول ہونا۔ — ہ: سے رگڑنا، کے ارد گرد یا آس پاس کھیلنا۔ نَوْشَۃ: ٹائیفائیڈ بخار۔ مُنَاوَشَۃ: جھڑپ، لڑائی۔ مڈبھیڑ۔ مقابلہ مُنَاوَشَۃ حربیۃ: لڑائی، مسلح تصادم جمع مُنَاوَشَات: جارحانہ کارروائی، جارحانہ اقدامات۔ مَنَاوِیش و مناویشی: نیلگوں اودا، ارغوانی۔ نُوشَادر: نوشادر کی گیس۔ امونیا گیس (Ammonia)

نوص: ۱۔ نَاصَ یَنُوصُ نَوْصًا و مَنَاصًا و مَنِیْصًا عن قِرنِہٖ: اپنے مدمقابل سے بھاگ جانا، بچنا، جدا ہونا۔ — فلانًا: کے ہاتھ سے نکل جانا، سے سبقت لیجانا۔ — الشیءَ: کو کھینچنا۔ — الیہ: کی طرف اٹھنا۔ — للحرکۃ: حرکت کے لئے تیار ہونا۔ —

پیچھے ہٹنا۔ مَنَاصًا و نَوِيصًا و نِيَاصًا و نِيَاصَةً و نَوْصًا و نَوَصَانًا الرجلُ: ہلنا، حرکت کرنا، کہا جاتا ہے: مایقدر علی أن ینوص: وہ چیز کیلئے حرکت کرنے پر قادر نہیں۔ نَوَّصَ القندیلُ: قندیل کی روشنی کمزور ہونا۔ مدہم ہونا۔ — القندیلَ: قندیل کی روشنی مدہم کرنا۔ (عام سریانی زبان میں) نَاوَصَ مُنَاوَصَةً ہُ: کی سے جھڑپ ہونا۔ اِنْتَاصَ اِنْتِيَاصًا الشمسُ: سورج کا غائب ہو جانا۔ اِسْتَنَاصَ اِسْتِنَاصَةً الرجلُ: پیچھے رہ جانا، تاخیر کرنا، سربلند کرنا۔ — الفرسُ: گھوڑے کا چلنے کے لئے حرکت کرنا۔ — ہُ: کو حرکت دینا، ہلکا سمجھنا اور اپنی ضرورت کے لئے لیجانا۔ النَّوْص (ح): گورخر۔ — و النُّوص: فرار، بھاگ جانا۔ النَّوْصَة: ناص کا اسم مرہ۔ پانی وغیرہ سے غسل، کہا جاتا ہے: مابہ نَوِيصٌ: اس میں کوئی طاقت و حرکت نہیں۔ المَنَاص (مص): جائے پناہ۔ بھاگنے کی جگہ، کہا جاتا ہے: مالك من مناص: تمہارے لئے کوئی جائے فرار نہیں۔

۲- أنَاصَ إنَاصَةً ہُ: کا ارادہ کرنا کہا جاتا ہے۔ أنَصْتُ أن آخذ منه شيئًا: میں نے اس سے کوئی چیز لینے کا ارادہ کیا۔

۳- النَّوْصُ و المَنَاص: سخاوت۔

⊙ نَاصَ — نَوْصًا و مَنَاصًا و مَنِيصًا عن: سے پہلوتہی کرنا، پہلو بچانا، بچنا، کنی کترانا، گریز کرنا، بچ نکلنا، کو ٹال جانا، پی جانا، سے ادھر ادھر ہٹنا، سے فرار ہونا، پیچھے ہٹنا، اِنْتَاصَ: مدھم ہونا، ختم ہو جانا (روشنی، لیمپ وغیرہ کا)۔ نَوْص: جنگلی گدھا، گورخر۔ مَنَاص و مَنِيص: پہلوتہی، بچنا، گریز، بچ نکلنا، فرار، جائے فرار، لامَنَاص منه: اٹل، ناگزیر، ہو کر رہنے والا، مجبوری کی بات۔

نوص: ۱- نَاصَ يَنُوصُ نَوْصًا: شہروں میں جانا۔ — البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ — الشيءُ: چیز کا حرکت کرنا۔ — الرجلُ: بھاگ کر نجات پانا، جان بچانا۔ المَنَاص: جائے پناہ، پناہ گاہ۔

۲- نَاصَ يَنُوصُ نَوْصًا الشيءَ: کو اکھاڑنے کی کوشش کرنا۔ — الملحُ: پانی نکالنا۔ أنَاصَ إنَاصَةً: مشقت کے آثار کسی کی آنکھوں سے نمایاں ہونا۔ — النخلُ: درخت خرما کا پکی کھجوروں والا ہونا۔ النَّوْصُ (مص) جمع أنْوَاص و أنَاوِيص: پانی نکلنے کی جگہ، وادی۔ من البعير: دونوں سرین کے درمیان کی ہڈی۔ الأنْوَاص و الأنَاوِيص: بلند جگہیں۔

۳- ـص يَنُوصُ نَوْصًا: تاخیر کرنا، پیچھے ہٹنا۔

۴- نَوَّصَ تَنْوِيصًا الثوبَ بالصبغ: کپڑا رنگنا۔

۵- النَّوْصُ جمع أنْوَاص و أنَاوِيص: دم کی ہڈی۔

نوط: نَاطَ يَنُوطُ نَوْطًا و نِيَاطًا ہُ: کو لٹکانا۔ (کہا جاتا ہے: نِيطَ عليه الشيءُ: اس پر چیز لٹکائی گئی) — ت الدارُ: گھر کا دور ہونا۔ — الشيءَ: کو بغیر مشورہ کے اپنی رائے سے کاٹنا۔ نِيطَ به الشيءُ: سے ملا یا جانا۔ نَوَّطَ ہُ: کو لٹکانا۔ — القربةَ: مشک کو تیل ملنے کے لئے پانی سے بھرنا، کہا جاتا ہے۔ أبطأ حتى نَوَّطَ الروحَ: اس نے دیر کر کے دل تنگ کر دیا۔ اور ملول کر دیا۔ أنَاطَ إنَاطَةً ہُ بكذا: کو سے باندھنا۔ — البعيرُ: اونٹ کو سینہ اور ران کی جڑ میں ورم ہونا۔ اِنْتَاطَ اِنْتِيَاطًا به: کے ساتھ لٹکنا۔ — الشيءُ: دور ہونا۔ — الشيءَ: کو بغیر مشورہ کے اپنی رائے سے کاٹنا۔ اِسْتَنَاطَ اِسْتِنَاطَةً فلانًا بعيرَہُ فانتاط هُوَلَہُ: کو اونٹ زادِ راہ اٹھانے کے لئے دینا اور اس کا اونٹ کو لے لینا۔

النَّائِط (فا): پیٹھ کی اندرونی رگ۔ — و النَّائِطَة: پوٹا۔ النَّوْط (مص) جمع أنْوَاط و نِيَاط: لٹکی ہوئی چیز۔ جانور کے دونوں طرف کے درمیان رکھا ہوا زائد بوجھ۔ (کہا جاتا ہے: أثقل النوطُ الدابةَ: جانور کے دونوں طرف کے درمیان رکھے ہوئے بوجھ نے جانور کو حد سے زیادہ زیر بار کر دیا) محمل سے لٹکی ہوئی کھجوروں کی خرجی۔ النَّوْطَة: نَاطَ کا اسم مرہ۔ پانی سے بلند جگہ، اونٹ کے سینہ اور ران کی جڑ میں ورم، اونٹ کے پیٹ کے مہلک غدود، پوٹا، کینہ، سیلاب سے اونچی جگہ جس کے درمیان درخت ہوں اور دونوں طرف سے درختوں سے خالی ہو۔ النِّيَاط (مص) جمع أنْوِطَة و نُوط: دل، ہر چیز لٹکانے کی جگہ (ع ا)، دل سے متصل ایک موٹی رگ (ع ا)، کمر کی ایک رگ۔ — من المفازة: بیابان کے راستہ کی دوری۔ کہا جاتا ہے: مفازةٌ بعيدة النياط: دور دراز حد والا بیابان۔ قطعتُ نِيَاطَ البلدِ: میں نے شہر کو طے کیا۔ النَّيِّط: درمیان (کہا جاتا ہے: لا كثير ولا قليل ولكن نَيِّطٌ بين الأمرين: نہ زیادہ نہ تھوڑا مگر زیادہ اور تھوڑے کے درمیان) کنواں جس کے کناروں سے پانی بہتا ہو۔ النَّيِّطَة: اونٹ جو غلہ لانے کے لئے غلہ لانے والوں کے ہمراہ بھیجا جائے۔ الأنْوَاط: نَوْطٌ کی جمع: لٹکائی جانے والی چیزیں، کہا جاتا ہے: عنده أنواط من التمر والعنب: اس کے پاس کھجور اور انگور کی خرجیاں ہیں۔ التَّنْوَاط: ہودج کی زینت کیلئے لٹکائی جانے والی چیز۔ التَّنَوُّط و التُّنُوط واحد تَنَوُّطَة و تُنُوطَة (ح): شاخوں سے اپنا گھونسلا لٹکانے والا پرندہ۔ بیا۔ المَنَاط: لٹکانے کی جگہ، دور، کہا جاتا ہے: هو مني مَنَاطَ الثريّا: وہ مجھ سے اتنا ہی دور ہے جتنا ثریا۔ بنو فلان مناطَ الثريّا: فلاں قبیلہ والے ثریا جتنے دور ہیں، یعنی (اپنے بلند مرتبہ اور شرف کی وجہ سے) غايةٌ مُنْتَاطَة: دور کی غایت۔ المَنُوط مفع: کہا جاتا ہے۔ هذا منوطٌ به: یہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ هو منوط بالقوم: وہ قوم میں اجنبی ہے یا لے پالک ہے۔ بعيرٌ مَنُوطٌ: سینے اور کہنیوں پر ورم والا اونٹ۔

⊙ نَاطَ — نَوْطًا و نِيَاطًا ہ ب: کو سے یا پر لٹکانا۔ — ہ ب: کو کے سپرد کرنا۔ — ب ہ: کے سپرد کوئی چیز کرنا، کو کوئی کام کرنا تفویض کرنا، کو کسی کام کے کرنے کا مختار بنانا، کے سپرد کوئی کام کرنا۔ — ہ علی / ب: کو سے مشروط کرنا۔ نِيطَ ب: سے مشروط ہونا، سے منسلک ہونا، سے مربوط ہونا، سے متعلق ہونا، کے سپرد ہونا۔ — علی: پر لٹکا ہوا ہونا۔ نَوَّطَ و أنَاطَ بمعنی نَاطَ۔ أنَاطَهُ بشرطٍ: کو شرط سے وابستہ کرنا، کو مشروط بنانا، کو کا مستوجب بنانا، کو پر منحصر کرنا۔ أنَاطَهُ بعهدته: کو کی ذمہ داری سونپنا، کو کا ذمہ دار بنانا۔ نَوْط جمع أنْوَاط و نِيَاط: لٹکی ہوئی چیز۔ جڑی ہوئی چیز، آرائش تمغہ، نشان اعزاز، قدر و منزلت کا للا۔ نُوط الجدارة: تمغہ استحقاق۔ نِيط جمع نِيَاط: رگ جان، شاہ رگ، بڑی رگ جو دل سے نکلتی ہے۔ منظر يشقُّ له نياطُ القلوب: دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا منظر۔ قَطَعَ نياطَ القلوب: دل توڑنا۔ مَنَاط: جگہ جہاں کوئی چیز لٹکائی جاتی ہو۔ ہدف (مذاق کا) (امید کا) لنگر۔ مَنَاطُ الثريّا یا مَنَاطُ الجوزاء: بلند ترین آسمان، اتنا اونچا یا اتنا دور جتنا اونچا یا دور سات سہیلیوں کا جھمکا (ثریا، پروین) ہے۔ تَنَوُّط: بیا۔ مَنُوطٌ ب: پر منحصر، سے وابستہ، سے مشروط، کا نگران، کے زیر نگرانی۔ مُنَاطٌ ب: کے سپرد، کا نگران، کے زیر نگرانی۔

نوع: ۱- نَاعَ يَنُوعُ نَوْعًا الغصنُ: ٹہنی کا جھکنا۔ — الشيءُ: آگے پیچھے جھولنا، زیادہ وزنی ہونا، گھڑی کے لٹکن کی طرح ہلنا، ہلنا جلنا۔ — ت العُقَابُ: عقاب کا کسی چیز پر سرسٹ پڑنا۔ — الرجلُ: بھوکا ہونا، صفت نَائِع جمع نِيَاع: پیاسا ہونا۔ نَوَّعَ تَنْوِيعًا ت الريحُ الشيءَ: ہوا کا کسی چیز کو ہلانا۔ — زيدٌ الشيءَ: زید کا چیز کو لٹکا کر ہلتی ہوئی چھوڑنا۔ تَنَوَّعَ الشيءُ: جھولنا، تھرتھرانا۔ — الغصنُ: ٹہنی کا ہلنا۔ — في السير: (چلنے میں) آگے بڑھنا۔ اِسْتَنَاعَ اِسْتِنَاعَةً الغصنُ:

ٹہنی کا ہلنا۔ — الرجلُ فی السیر آگے بڑھنا۔ — الشیُٔ: جاری رہنا۔ النائِع (فا): پیاسا۔ جائع نائع: بھوک کی وجہ سے جھکا ہوا۔ قوم جیاع نِیاع: بھوک کی وجہ سے جھکے ہوئے لوگ۔ النُوع: پیاس، کہا جاتا ہے: رماہُ اللّٰہُ بالجوع النوع: اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک کی مار ماری اگر کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہتے ہیں: جُوعًا نوعًا: اللہ انہیں بھوک کی مار مارے۔ النَوعَۃ: ناعَ کا اسم مرۃ۔ النوعان: ٹہنیوں کا ہلنا۔

۲۔ ناعَ یَنُوعُ نوعًا فلانٌ الشیَٔ: چیز کو طلب کرنا۔

۳۔ نَوَّعَ تَنوِیعًا الشیَٔ: کو قسموں میں تقسیم کرنا، کی قسمیں بنانا۔ تَنَوَّعَ الشیُٔ: قسموں میں بٹنا، قسمیں بننا۔ النَوع جمع اَنواع: قسم۔ المِنوَاع: طریقہ، طرز۔

۴۔ النَوعَۃ: تر و تازہ پھل۔ مَکانٌ مُتَنَوِّع: دور کی جگہ۔

○ نَوَّعَ: کو مختلف یا متعدد قسموں میں تقسیم کرنا۔ کو مختلف یا متنوع کرنا، بوقلموں کرنا، رنگ برنگ کرنا، مختلف رنگوں سے بوقلمون بنانا، کو انواع و اقسام کرنا، کو تبدیل کرنا، کو معتدل کرنا، کی تراش خراش کرنا، کو قطع برید کرنا، کی بیرونی شکل میں تغیر کرنا، کی شکل تبدیل کرنا۔ تَنَوَّعَ: مختلف قسموں یا شکلوں کا ہونا، گوناں گوں، بوقلموں یا طرح طرح کا ہونا، کثیر الانوع یا متنوع ہونا، مختلف ہونا، مرکب ہونا۔ نَوع جمع انواع: قسم، نوع، ٹائپ، بوقلمونی، انواع و اقسام، مختلف چیزوں کا مجموعہ، ورائٹی (Variety) طریقہ، انداز، شکل، طبیعت، کردار، خوبی، خصوصیت، خاصیت، گریڈ، نوعًا: کسی قدر، تھوڑا سا، کسی حد تک، کسی طریقے کا، گویا، ایک طرح سے۔ نوعًا ما: کسی نہ کسی طرح، ایک طرح سے، کسی قدر۔ نوعًا و کمیّۃً: ساخت اور مقدار میں، کیفیت اور مقدار میں۔ بنوعٍ خاصٍ: خاص کر، بالخصوص، خصوصاً۔ الاوّل من نوعہ: اپنی قسم کا پہلا۔ ظالمونَ علی انواعِھم: ہر قسم کے ظالم۔ نوع الانسان یا النوعُ الانسانی: نسل انسانی۔ نَوعِی: نوعی، طبیعت، یا ٹائپ کا، امتیازی، مخصوص، کا مخصوص، مناسب موزوں، اصلی، لازمی، ضروری، جوہری، خصوصی۔ وَزنٌ نوعیٌ، ثِقل نوعی: ثقل نوعی۔ کثافت نوعی Specific gravity۔ تَنوِیع: تبدیل، تبدیلی، ترمیم۔ تَنَوُّع: بوقلمونی، اختلاف، کثیر تعداد، تبدیلی، تغیر، فرق، دوبارہ یا از سر نو ترتیب یا بندوبست، پھر سے توازن کی درستی۔ مُنَوَّع: مختلف، متعدد، متفرق، مخلوط کئی طرح کا، ہر رنگ کا، مختلف قسم کا، گونا گوں، طرح طرح کا، مرکب، مُتَنَوِّع: بمعنی مُنَوَّع۔

مُتَنَوِّعات (اخبار کے ایک کالم کی سرخی): متفرقات (کا مجموعہ)۔

نوف ۱۔ نافَ یَنُوفُ نَوفًا الشیُٔ: بلند ہونا۔ — علی الشیٔ: سے زیادہ ہونا، کے اوپر ہونا، سے بڑھ جانا۔ — البعیرُ: اونٹ کا لمبا اور اونچا ہونا۔ نَیَّفَ تنییفًا علی کذا: سے زیادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ نَیَّفَ العددُ علی ما تقول: جو تم کہتے ہو تعداد اس سے زیادہ ہے۔ اَنافَ اِنافَۃً علی الشیٔ: سے زیادہ ہونا، سے لمبا ہونا۔ سے اونچا ہونا۔ (کہا جاتا ہے: اناف الجبل و اناف البناءُ: پہاڑ لمبا اور اونچا ہے، عمارت لمبی اور اونچی ہے) — علی کذا: سے زیادہ ہونا، کہا جاتا ہے: انافتِ الدراھمُ علی المئۃِ: درہم سو سے زیادہ ہوگئے۔ النَوف (مص) جمع اَنواف: بلند کوہان۔ آواز۔ دامن کے نیچے کا حصہ۔ النِیاف من الجمال و النوق: لمبا اور اونچا اونٹ یا اونٹنی۔ کہا جاتا ہے: جملٌ نِیافٌ و ناقۃ نِیافٌ: لمبا اور اونچا اونٹ یا اونٹنی۔ امراۃٌ نِیافٌ: دراز قد، خوبصورت عورت۔ فلاۃ نِیافٌ: لمبا چوڑا بیابان۔ النَیِّف: زیادتی۔ بھلائی کہا جاتا ہے: ھو نَیِّفٌ علیہ: وہ اس سے زیادہ ہے۔ — و النَیْف: زیادتی۔ کہا جاتا ہے: عشرۃ و نَیِّفٌ او نَیْفٌ: دس اور کچھ اوپر یا دس یا دس سے زیادہ۔ نیف کا لفظ محض دہائی پر زیادتی کو ظاہر کرتا ہے۔ خمسۃ عشر و نیف نہیں کہہ سکتے۔ جبلٌ عالی المَناف: بلند پہاڑ۔ المُنِیف فا۔ جبل مُنِیف: بلند پہاڑ۔ لہ عزٌّ مُنِیفٌ: وہ بلند عزت والا ہے (مجازا)۔ امراۃ مُنِیفَۃ: دراز قد اور خوبصورت عورت۔

۲۔ نافَ یَنُوفُ نَوفًا الصبیُّ من الثدی: بچہ کا پستان چوسنا۔

○ نافَ۔ نَوفًا: بلند ہونا، بہت اونچا ہونا، سرفراز ہونا، برتر ہونا، بہترین ہونا، پرجلال ہونا۔ — عن/علی: سے زیادہ ہونا، کے اوپر ہونا، کی دسترس سے باہر ہونا۔ ما ینوف علی الخمسین: پچاس سے زیادہ۔ نَیَّفَ و اَنافَ علی/عن بمعنی نافَ عن/علی۔ ما یُنیف عن ثلاثِ سنوات: تین سال سے زیادہ، تین سال سے اوپر۔ نافٌ ۱۔ نوف جمع انواف: جو تعداد، مقدار، ناپ، پیمائش درجہ وغیرہ سے زائد ہو، زیادتی۔ زائد۔ نَیِّف: زیادتی، زائد۔ و نیف و یا و نَیِّف: کوئی، اور کوئی، کچھ۔ نیف و عشرون: کوئی بیس، بیس اور کچھ۔ نیافۃ: صاحب امتیاز، فضیلت، شرف، فضیلت مآب (لقب) مُنِیف: بلند، لمبا، بہت اونچا، سرفراز، بہترین، پرجلال۔ ممتاز، عمدہ، اعلیٰ۔ مَنُوفی: مصری کپاس کی ایک قسم۔ نوفِمبَر: نومبر (November)

نوق: ناقَ یَنُوقُ نَوقًا: چربی کو گوشت سے جدا کرنا۔ نَوَّقَ تَنوِیقًا الجملَ: اونٹ کو اچھی طرح سدھانا۔ — النخلَ: مادہ کھجور میں نر کھجور کے پھول ڈالنا۔ — الشیَٔ: چیز کو ترتیب سے جمانا۔ آنَقَ اِیناقًا و نِیقًا الشیُٔ فلانًا: کوئی چیز کسی کو پسند آنا، اچھی لگنا۔ تَنَوَّقَ تَنَوُّقًا: آہستہ چلنا، ٹہلنا، پر لطف ہونا۔ تنوّقًا و تَنَیَّقَ تَنَیُّقًا فی ملبسہ او مطعمہ او امورہ: پہننے، کھانے پینے اور دیگر امور میں صاف ستھرا ہونا۔ اِنتاقَ اِنتِیاقًا الشیَٔ: کو منتخب کرنا، چننا۔ — فی ملبسہ او مطعمہ او امورہ: لباس، کھانے اور امور میں صاف ستھرا ہونا۔ اِستَنوَقَ اِستِنواقًا الجملُ: اونٹ کا اونٹنی کے مشابہ ہونا، اس سے ضرب المثل ہے۔ استنوق الجملُ: آدمی نے ایک بات کرتے کرتے اسے دوسری باتوں سے خلط ملط کر دیا۔ الناقۃ (فلک): اونٹنی کی طرح صف بستہ ستارے۔ ہاتھ میں نکلنے والی پھنسی — جمع ناق و نوق و اَنوُق و اَونُق و اَیْنُق و نِیاق و ناقات و اَنواق جمع الجمع اَیانِق و نِیاقات (ح): اونٹنی۔ الناوَق جمع ناوَقات: لکڑی کا پرنالہ (فارسی لفظ)۔ النَوَق: تھوڑی سرخی ملی ہوئی سفیدی۔ النُوقَۃ: مہارت۔ النَوّاق: کاموں کو ہوشیاری سے انجام دینے والا۔ النِیق جمع نِیاق و اَنیاق و نُیوق: پہاڑ کی چوٹی۔ النِیقَۃ: نفاست پسندی۔ ضرب المثل خرقاءُ ذاتُ نیقۃ: معاملات سے ناواقف مگر واقفیت کا مدعی۔ ارادہ میں نفاست پسند۔ النَیِّق: نازک مزاج، ضرورت سے زیادہ محتاط، نفاست پسند، نک چڑھا، بڑا باریک بین۔ المُنَوَّق: اچھا سدھا ہوا اونٹ۔ — من النخل: کھجور کا پھول ڈالا ہوا نر درخت خرما۔ ناقۃ مُنَوَّقَۃ: اونٹنی جسے چلنا سکھایا گیا ہو۔

○ تَنَوَّقَ و تَنَیَّقَ فی: میں نفاست پسند، باریک بین یا ضرورت سے زیادہ محتاط ہونا۔ استنوق الجملُ: اس نے غلطی سے اونٹ کو اونٹنی سمجھا۔ لا ناقۃَ لی فی الامرِ و لا جمل: میرا اس معاملہ میں کوئی ہاتھ نہیں۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

نوک: نَوِکَ یَنوَکُ نَوکًا و نُواکًا و نَواکًا و نَواکَۃً: بے وقوف ہونا۔ اَنوَکَ اِنواکًا ہُ: کو بے وقوف پانا، خیال کرنا۔ اِستَنوَکَ اِستِنواکًا: بے وقوف ہونا۔

۔ فلانًا: کو بے وقوف سمجھنا، کہا جاتا ہے: ما أنوكه: وہ کتنا بے وقوف ہے۔ الأنوك جمع نوكى ونوك م نوکاء جمع نُوك: احمق، بے وقوف، بڑا ہی بے وقوف، عاجز و جاہل، بولنے میں عاجز۔ المستنوك: بیوقوف

نول: نَالَ يَنُولُ نَوالاً ونولاً فلانًا العطية وبالعطية ونال له العطيةَ وبالعطيةِ: کو عطیہ دینا۔ نالني بالخير و نال له بشيئٍ: اس نے مجھ کو بھلائی یا اسے کوئی چیز پہنچائی۔ نال له أن يفعل كذا: اس کے لئے ایسا کرنے کا وقت آ گیا۔۔ ينالُ نيلاً ونائلاً: فیاض ہونا۔ نوّل تنويلاً هُ: کو بخشش دینا۔۔۔ هُ معروفهُ: کو بھلائی پہنچانا۔ عليه بشي: کو کوئی چیز دینا۔ ناول مُناولةً هُ الشيَ: کو کوئی چیز دینا یا ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز دینا۔ انال إنالةً هُ الشيَ وبالشيِ: کوئی چیز دینا۔ کہا جاتا ہے: أنا لني بخير: اس نے مجھے بھلائی پہنچائی۔ ما أنوله: اس کی بخشش اور بھلائی کتنی زیادہ ہے۔ تنوّل الشيَ: چیز لے لینا۔۔۔ علينا فلانٌ الشيَ بيسير: کو تھوڑا سا دے دینا۔ تناول الشيَ: چیز لے لینا۔ المسيحيُّ: مسیحی کا عشائے ربانی لینا۔۔۔ من يده شيئاً: کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا۔ کہا جاتا ہے: تناولتُ بنا الركابُ مكانَ كذا: اونٹوں نے ہمیں فلاں جگہ پہنچا دیا۔ النائل (مص و فاعل): عطیہ، بخشش، بھلائی۔ النائلة: نائل کا مونث۔ النال: عطا، رجُلٌ نالٌ: فیاض مرد یا بہت فیاض مرد۔ کہا جاتا ہے: رجُلان نالانِ ورجال أنوال: دو یا دو سے زیادہ سخی مرد۔ النوال: عطا، حصہ، درستی، کہا جاتا ہے: نوالُكَ ان تفعل كذا: تمہیں چاہئے کہ ایسا کرو۔ النول (مص) جمع أنوال: بہتی ندی۔ کہا جاتا ہے۔ نولُكَ ان تفعلَ كذا: تمہارے لئے ایسا کرنا مناسب ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہئے۔۔ ما نولُكَ ان تفعلَ كذا: تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے۔ النولة: نال کا اسم مرہ۔ عطیہ۔ داد و دہش کہا جاتا ہے: ما اصبتُ منه نولةً: مجھے اس سے کچھ نہیں ملا یا کوئی عطا نہیں ملی۔ المناولة عند المسيحين: عشاء ربانی کا لینا۔

۲۔ أنالَ إنالةً فلانٌ باللّٰه: اللہ کی قسم کھانا۔

۳۔ النائلة: قریش کے ایک بت کا نام۔ الناولون: بحری جہاز کا کرایہ۔ النول جمع أنوال: جلاہے کی کپڑا لپیٹنے کی لکڑی، یا کرگہ۔ المنول جمع مناويل: بمعنی النول۔ المنوال: جلاہا۔ ج مَناويل: جلاہے کی کپڑا لپیٹنے کی لکڑی یا کرگہ۔ هم على منوالٍ واحدٍ: وہ سب ایک ہی قسم کے اخلاق کے ہیں۔ لا ادری على اى منوال هو: میں نہیں جانتا وہ کس پایہ کا ہے۔ إفْعَلْ على هذا المنوال: اس طرح کرو۔ منوالُكَ ان لا تفعل كذا: تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

نَالَ ۔۔۔ نُولاً ہُ/ل ب: کو کچھ دینا، کو کوئی چیز بطور عطیہ دینا، کو کوئی چیز پیش کرنا، کو کوئی چیز عطا کرنا، مرحمت کرنا۔ نوّل ہ ہ: کو کوئی چیز لینے دینا، کو کوئی چیز دینا، کے پاس کوئی چیز لانا، کو کوئی چیز بہم پہنچانا، یا مہیا کرنا۔ ناول ہ/ل ہ: کو کوئی چیز دینا، پیش کرنا، کے حوالے کوئی چیز کرنا۔ ناول هُ القربان: کو عشاء ربانی دینا۔ تناول ہ: کو لینا، کے لئے ہاتھ بڑھانا، کو قبول کرنا، کو حاصل کرنا، وصول کرنا، کو کھانا۔۔ ہ من: کو سے لینا، کو سے حاصل کرنا۔۔ ہ: کے معنی کو پوری طرح سمجھنا، یا اس کا ادراک کرنا۔۔۔ ہ: پر بحث کرنا، تک ممتد ہونا، کو شامل کرنا۔ ہ: تک پہنچنا (نگاہ کا)۔ عشاء ربانی میں شریک ہونا۔ نول جمع أنوال: تحفہ، طریقہ، انداز، اسلوب، کپڑا بننے کی مشین، کرگھا، جہاز کا کرایہ، سامان لیجانے کے لئے جہاز کا محصول۔ نوال: تحفہ، کوئی چیز جو لی گئی ہو۔ مہربانی، کرم، فائدہ، مناسب، صحیح یا لازمی یا واجب، فرض۔ ليس ذلك بنوال: یہ نامناسب ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ منول و منوال: کپڑا بننے کی مشین۔ کرگھا۔ منوال: طریقہ، انداز، اسلوب، شکل، طریقہ کار، اسلوب کار۔ دستور العمل۔ على هذا المنوال: اس طریقہ سے، اس طرح، اس انداز سے هم على منوال واحد۔ وہ ایک ہی ڈھنگ کے ہیں، وہ سب یکساں ہیں۔ منوالك ان تفعل كذا: تمہیں اسے اس طریقہ سے کرنا ہوگا۔ مناولة: پیش کش، سپردگی، حوالگی، عشائے ربانی۔ تناول: کھانا، کھانا لینا، پینا، ادراک، پکڑ، گرفت، اثر پذیری۔ عشائے ربانی، عشائے ربانی میں شرکت۔ متناوِل: ہاتھ بڑھانے والا، لینے والا، پکڑنے والا، چھیننے والا، عشائے ربانی میں شرکت کرنے والا۔ متناوَل: ممکن الحصول، دستیاب، رسائی میں، ممکن الحصولی، دستیابی پہنچ، رسائی۔ اعسرُ متناولاً: جس تک پہنچنا مشکل ہو، جس تک رسائی دشوار ہو۔ تحت (فی) متناول يده: دستیاب، کے ہاتھ میں، کے سپرد، کی تحویل میں، رسائی کے اندر، قریب ہی۔ في متناوله: کے لئے ممکن الحصول، کی رسائی میں۔ في متناولِ الجميع: ہر شخص کی آمدنی کے اندر۔ في متناولِ كل الافهام: سب کے لئے قابل فہم جسے سب سمجھتے ہیں۔ جعل ہ في متناوله: کو کسی کی پہنچ میں لانا۔ کو کسی کے لئے ممکن الحصول بنانا، کو کے لئے دستیاب کرنا۔ نولون و ناولون جمع نوالين: جہاز کا کرایہ، سامان لیجانے کے لئے جہاز کا محصول۔

نوم: انام ينوم نومًا هُ: پر سونے میں غالب آنا، کہا جاتا ہے۔ ناومني فنمتُهُ اس نے میرے ساتھ نیند میں مقابلہ کیا تو میں اس پر غالب آیا۔۔۔ ينام نومًا ونيامًا: اونگھنا، سونا، مرنا۔ اسم: النيمة۔ ۔ تِ السوقُ: بازار کا ٹھنڈا پڑنا۔۔۔ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا (بطور استعارہ)۔۔۔ ت الريحُ: ہوا کا ٹھہرنا۔ ۔ تِ النارُ: آگ کا بجھنا۔۔۔ البحرُ: سمندر کا پر سکون ہونا۔۔۔ العرقُ: رگ کا حرکت نہ کرنا۔۔۔ الرجلُ: اللہ سے عاجزی کرنا۔۔۔ اليه: سے مطمئن ہونا۔۔۔ عن حاجته: اپنی حاجت سے غافل ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ نام همُّهُ: بے ہمت ہونا، کہا جاتا ہے: فلان لاينام ولا يُنيم: فلاں شخص نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔ نوّم تنويمًا هُ: کو سلانا۔ الرجلُ: بہت سونا۔۔۔ ت الابلُ: اونٹوں کا مرنا۔ ناوم مناومةً هُ: پر سونے میں غالب آنا۔ انام إنامةً هُ: کو سلانا، قتل کرنا۔ کہا جاتا ہے طعنتُ قِرني فأنمتُهُ: میں نے اپنے مدمقابل کو چھرا گھونپ کر قتل کر دیا۔ أنام زيدًا: اس نے زید کو سویا ہوا پایا۔ تناوم تناومًا: سونے کا بہانہ کرنا، نیند چاہنا۔۔۔ اليه: سے مطمئن ہونا، سکون حاصل کرنا۔ استنام إستنامةً الرجلُ: سونا، نیند کا طالب ہونا، اپنے کو جھوٹ موٹ سوتا ظاہر کرنا۔۔۔ اليه: سے نیند کا سا سکون حاصل کرنا۔ الى الشي: سے مانوس ہونا۔ النائم (فا) نيام ونوّم ونُيّم ونيّم ونوّام (نيّام و نوّم) (آخری لفظ اسم جمع بتایا جاتا ہے) سونے والا، کہا جاتا ہے: ليل نائم: گہری نیند والی رات۔ النائمة جمع نوّم: نائم کا مونث۔ مردہ النؤوم: بہت سونے والا (رجُل نؤوم وامرأة نؤوم: بہت سونے والا مرد اور عورت) النوم (مص): غشی، غشی، نیند نائم کی جمع یا اسم جمع جیسے بیان کیا گیا۔ رجُل نُوَم و نُوَّام: بہت سونے والا مرد۔ النومة جمع نومات: نام کا اسم مرہ: ایک بار کا سونا۔ النُّومة: جس کی کوئی پروانہ کرے غیر اہم۔ النُّوَمة: بہت سونے والا۔ غافل، گمنام۔ النُّوام: نیند طلب: نیند کی بیماری، کہا جاتا ہے: يا نَومانُ: اے بہت سونے والے! یہ لفظ نداء کے لئے خاص ہے۔ النيمة: پوری نعت، رات کا لباس۔ وہ شخص جس سے انس حاصل ہو۔ النيمة: نام سے اسم کہا جاتا ہے: ماله نيمة ليلة: اس کے پاس ایک رات کا گزارہ بھی نہیں۔ الصنام جمع

مَنامات نیند، سونے کی جگہ، خواب۔ ـــ والمُستنام: پست یا نشیبی جگہ جہاں پانی ٹھہرتا ہے۔ المَنامَۃ سونے کی جگہ رات کا لباس۔ قبر۔ طعامٌ مَنُومَۃٌ نیند آور کھانا۔

۲۔ النِیم پوستین یا سینہ تک کی پوستین (ن) ایک نرم کانٹے کا درخت جس کے پتے چھوٹے دانے چنے کے برابر اور ترش ذائقہ ہوتے ہیں۔

○ نَامَ ینام نومًا و نِیامًا سونا، محوِ خواب ہونا، (ہوا، سمندر کا) ساکن ہونا، گھٹنا، کم ہونا، عام سطح پر آ جانا (بازار کا) ماند پڑنا، سرد پڑنا، ٹھنڈا ہونا۔ (عضو کا سن) ہونا، بے حس ہونا۔ ـــ عن کو نظرانداز کرنا، ـــ سے چشم پوشی کرنا، پر دھیان نہ کرنا۔ کے بارے میں بھول جانا، کا نہ سوچنا۔ ـــ الی سے اندیشہ دور ہو جانا، کو قبول کرنا، کو ماننا، پر راضی ہونا، پر بھروسا کرنا، اعتماد کرنا۔ ینام مِلءَ جَفنِہ نیند بھر کر سونا۔ نوّمَہ کو سلانا، بچہ کو بستر پر لٹانا، کو بے حس کرنا، سن کرنا، پر غنودگی طاری کرنا۔ انامَ بمعنی نوّمَ۔ تناوَمَ سویا ہوا ہونے کا بہانا کرنا۔ ـــ الی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ اِستنامَ لَ سے سو جانا، سے غنودہ ہو جانا، کو ماننا، پر عمل کرنا۔ ـــ الی پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ ـــ الی ب کو کے سپرد کرنا، ـــ الی سے اندیشہ دور ہو جانا۔ کو خاموشی سے قبول کرنا، ـــ الی: سے مطمئن ہونا۔ نوْم نیند، خواب۔ غُرفَۃُ النوم بیڈروم، خواب گاہ، قمیصُ النوم رات کو پہننے کی قمیص، عبا۔ نَومِی نیند سے متعلق۔ نَومَۃ: نیند، ہلکی سی نیند، جھپکی، قیلولہ۔ نوّام سونے کا عادی۔ سونے والا۔ نُوُوم میٹھی نیند سویا ہوا۔ سونے کا عادی، دیر سے جاگنے والا، جو دیر تک بستر پر لیٹنے کا عادی ہو۔ مَنَام: نیند۔ جمع مَنامات (نیند) کا خواب، مَنَام: سونے کی جگہ بیڈروم، خواب گاہ، عام خواب گاہ۔ مَنامَۃ سونے کی جگہ، خوابگاہ، عام خواب گاہ، رات کا لباس، عبا یا قمیص۔ المَنامَۃ بحرین کا دارالحکومت تنویم سلانا، بے بس کرنا، سن کرنا، توجہ سے نیند لانے کا عمل (ہپناٹزم) مصنوعی طریقوں سے لائی ہوئی نیند۔ نومی حالت جو توجہ سے پیدا کی جاتی ہے۔ نائم جمع نِیام ونُوَّم ونِیَّم ونوّام ونُیّام سونے والا، سویا ہوا، (سن، بے حس کیا ہوا) عضو، پرسکون، آسودہ پر امن (رات)۔ مُنَوِّم خواب آور، نشہ آور دوا، عمل تنویم کرنے والا جمع مُنَوِّمات: خواب آور دوا۔ جُرعَۃٌ مُنَوِّمَۃ: خواب آور دوا کی خوراک، گھونٹ، رات کو اوڑھنے کی ٹوپی۔ دواءٌ مُنوِّمٌ خواب آور دوا۔

نون ا۔ نَوّنَ نُونًا "ن" کا حرف لکھنا۔ ـــ الکلمۃ لفظ پر تنوین لگانا۔ النُون تلوار کی دھار، تلوار۔ ـــ جمع نُونات و انْوان حرف "نون"۔ (ہجی کا یا زیادت کا) ـــ جمع نِینان و انْوان دوات۔ ذُو النُون عرب کی ایک تلوار کا نام۔ ـــ ذُو النُونین معقل بن خویلد کی تلوار کا نام

۲۔ النُون جمع نِینان و انْوان (ح) بڑی مچھلی، وہیل مچھلی، حضرت یونس کا لقب یعنی نبی یونان۔ النُونَۃ جمع نُونات (ح) مچھلی، نیک بات، چھوٹے بچے کی ٹھوڑی کا چھوٹا سا گڑھا۔

○ نُونِی نون کی شکل کا، ہلال کی شکل کا۔ ھما کالتنوین والاضافۃ وہ دن اور رات کی طرح ہیں، وہ یکسر ایک دوسرے کا الٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کے مخالف یا ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ حتی الوسع مختلف ہیں۔

نوہ ا۔ نَاہَ یَنُوہُ نَوھًا النباتُ وغیرہ پودہ وغیرہ کا بلند ہونا۔ ـــ ت الھامۃُ الو کا سر اٹھا کر چیخنا۔ ـــ فلانٌ بالشیءِ کا چیز کو اونچا کرنا۔ یَنُوہُ ویَناہُ نُوھات نفسُہُ عن الشیءِ کے نفس کا کسی چیز سے رکنا، کو حقیر جان کر چھوڑ دینا۔ نوّہَ تَنوِیھًا الشیءَ کو بلند کرنا۔ ـــ بفلان: کو بلند آواز سے بلانا، کسی کے ذکر کو بلند کرنا۔ کی تعریف کرنا، تعظیم کرنا، کہا جاتا ہے: نوّھتُ بالحدیث میں نے بات کا بڑے تعریفی کلمات سے ذکر کیا، میں نے اس بات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ـــ باسمہ: کو اس کے نام سے پکارنا۔ تَنَوّہَ تَنَوُّھًا بلند ہونا۔ النَوہ والنُوُوہ کسی چیز سے رکنا۔ النَوھَۃ ناہ کا اسم مرہ۔ النُوھَۃ بدن کی طاقت۔ النَوّاھَۃ نوحہ کرنے والی عورت۔ النُوّہ بین کرنے والیاں۔ کہا جاتا ہے: ھو انْوَہُ من فلانٍ: وہ اس سے زیادہ مشہور یا نامور ہے۔

۲۔ النُوھَۃ دن رات میں صرف ایک مرتبہ کی خوراک۔ کھانا۔

○ نوّہَ ہ کو اٹھانا، بلند کرنا۔ ـــ ب کسی کی تعریف کرنا، ستائش کرنا، کے گن گانا، کی تعریف کے پل باندھنا، کی تحسین کرنا، اچھے لفظوں میں ذکر کرنا، کو خراج تحسین پیش کرنا، پر زور دینا، کا ذکر کرنا۔ ـــ ب/ عن: کی طرف اشارہ کرنا۔ کا حوالہ دینا۔ ـــ عن کا ذکر کرنا، کا نام لینا۔ ـــ عن/ب/الی کی طرف اشارہ کرنا، تلمیح کرنا، کنایہ کرنا، کا مفہوم ہونا، کا نتیجہ ہونا، کی طرف دلالت کرنا۔ تَنوِیہ مدح، تحسین، تعریف، ثنا، خراج تحسین، ذکر، حوالہ، اشارہ، تلمیح، کنایہ۔

نوی ا۔ نَوَی یَنوِی نَواۃً ونِیَّۃً الشیءَ کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، کا عزم کرنا۔ ـــ القومُ منزلاً بکذا: قوم کا کسی منزل کا عزم کرنا۔ ـــ اللہُ فلانًا اللہ تعالیٰ کا کسی کی حفاظت کرنا (مسافر سے کہا جاتا ہے نَواکَ اللہُ اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ اور سفر میں تمہارا ساتھی ہو۔ نَواکَ اللہُ بالخیر اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی نصیب کرے)۔ نَوِیَ فلانٌ من مکان الی آخر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ ـ نِیَّۃً ونَوَی المسافرُ: دور ہونا۔ نوّی تَنوِیَۃً فلانًا کو اس کی نیت پر چھوڑنا۔ ـــ حاجتَہُ اپنی ضرورت پوری کرنا۔ انْوَی اِنْواءً الرجلُ دور ہونا، سفر میں بہت رہنا۔ ـــ حاجتَہُ اپنی ضرورت پوری کرنا۔ تَنَوّی تَنَوِّیًا الشیءَ کا قصد کرنا۔ اِنتَوَی اِنتِواءً کا قصد کرنا۔ کہا جاتا ہے: اِنتَواہُ بنَواتِہِ: اس نے اس کی حاجت روائی کی۔ ـــ القومُ قوم کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا۔ ـــ القومُ بموضع کذا: قوم کا کسی جگہ اقامت پذیر ہونا۔ ـــ القومُ منزلاً مکان کذا قوم کا کسی جگہ منزل کا قصد کرنا۔ النَاوِی (فا): منتقلی کا پختہ ارادہ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ ناوِی القومِ ومنتَواھم فلاں شخص قوم کے امور کا مختار اور صاحب رائے ہے۔ النَوَی (مص) دوری، وہ جگہ جہاں کا مسافر ارادہ کرے، نزدیک ہو یا دور۔ گھر۔ (کہا جاتا ہے: اِستَقرَّت نوی القوم بموضع کذا و کذا: قوم نے فلاں فلاں جگہ اقامت کی) النَوِیّ: ہم نیت۔ النِیَّۃ قصد و ارادہ، دل کا عزم۔ ارادہ کا رخ، معاملہ، مسافر کے سفر کی غایت، قریب ہو یا بعید، کہا جاتا ہے: شَطَّت بھم نِیَّۃٌ قُذُفٌ بدور کے سفر نے ان کو دور پھینک دیا) ونَووا نیۃً قُذُفًا: انہوں نے دور کی جگہ کا ارادہ کیا۔ بعض اوقات یا مخفف آتی ہے اور کہا جاتا ہے: نِیَۃ جمع نِیات حاجت۔ ضرورت، (کہا جاتا ہے: لی فی بیت فلان نِیَّۃٌ: میری فلاں کے گھر میں ضرورت ہے۔

۲۔ نَوِیَ یَنوِی نَوًی النَواۃَ: گٹھلی پھینکنا۔ نوّی تَنوِیَۃً البُسرۃُ: کچی کھجور کا گٹھلی والا ہونا۔ ـــ فلانٌ: گٹھلی پھینکنا۔ انْوَی اِنواءً ت البُسرۃُ کچی کھجور کا گٹھلی والا ہونا۔ ـــ فلانٌ گٹھلی پھینکنا۔ اِستَنوَی اِستِنواءً الرجلُ۔ گٹھلی پھینکنا۔ النَوّاء: کھجور کی گٹھلیاں بیچنے والا۔ النَوَی کھجور کی گٹھلیاں (نواۃ التمر کی جمع اس معنی میں مذکر و مونث استعمال ہوتا ہے) النَواۃ جمع نَوًی و نَوَیات جمع الجمع انْواءٌ ونُوِیّ ونِوِیّ: کھجور کا دانہ یا بیج (گٹھلی)

۳۔ نَوَی یَنوِی نَیًّا ونَوایۃً ونِوایۃً ت الناقۃُ: اونٹنی کا

موٹی ہونا۔صفت نَاوِیَۃ و نَاوٍ جمع نِوَاء النّاوِی: اونٹنی کا کوہان۔ النَّیّ (مص) چربی النِّیّ موٹاپا۔

۴۔ نَوَّی تَنْوِیَۃً السِّنَّوْرُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ (سریانی کی عام زبان میں)

۵۔ نَاوَی مُنَاوَاۃً ہُ: سے دشمنی کرنا (اصل ہمزہ ہے)

○ نَوَی یَنْوِی نِیَۃً و نواۃً ہ: کا ارادہ کرنا یا ارادہ ہونا، کا منصوبہ بنانا، کو ذہن میں رکھنا، کو کرنے کا عزم کرنا۔ ــــ یَنْوِی نَوَیً عن /من: سے غیر حاضر ہونا، سے دور جانا۔ نَوَّی (بلی کا) میاؤں میاؤں کرنا۔ نَاوَاہُ: کو دشمن بنانا، سے لڑنا جھگڑنا، کا مخالف اور دشمن ہونا، کے خلاف ہونا، معاندانہ ہونا، اپنے کو کسی کا دشمن ظاہر کرنا۔ اِنْتَوَی ہ: کا ارادہ ہونا، مقصد ہونا، کو کرنے کا ارادہ ہونا۔ نَوَیً: دوری، فاصلہ، منزل مقصود۔ نَوًی: (اسم جمع گٹھلیاں (کھجور کی)، پھلوں کی گریاں، گٹھلیاں۔ نَوَاۃ جمع نَوَیات: کھجور کی گٹھلی، پھلوں کی گری، گٹھلی، گودا، مغز، بیج دان، مرکز وسط، ایٹمی مرکزہ، مرکزی حصہ، مرکزی نقطہ، نقطۂ آغاز۔ نَوَاۃ الذَّرَّۃ: ایٹمی مرکزہ۔ نَوَوِی مرکزی، ایٹمی۔ جوہری۔ ایٹمی۔ و اسلحۃ نوویۃ: جوہری ہتھیار، اسلحہ۔ نَیّ: فربہ، موٹا۔ نِیَّۃ جمع نِیَّات و نوایا: اردہ، قصد، مقصد، منصوبہ، سکیم، عزم، ارادہ کا رخ، سمت، رجحان، میلان، جھکاؤ، خواہش۔ علی نیۃ: کے ارادہ سے۔ فی النیۃ ان: کا ارادہ ہے یا ارادہ ہے کہ۔ حُسن النیۃ: نیک ارادہ، خیراندیشی، خیرسگالی، اخلاص، دیانت۔ سلامۃ النیۃ: بھولا پن، بے ریائی، اخلاص، معصومیت، بے گناہی، نیک نیتی، خلوص۔ سلیمُ النیۃ: بے ریاء، سیدھا سادھا، سادہ لوح، مخلص، سادہ دل، طباع۔ سُوء النیۃ: برا ارادہ، عدم خلوص، منافقت، بدباطنی، کینہ، عیاری، چالاکی، فریب، مکر، دغا، دھوکا، چال، داؤں، بدنیتی۔ بسوء النیۃ: بدنیتی سے صافی النیۃ: مخلص، صاف دل، صاف گو، صاف باطن، بے لاگ، اخلاص مند، راستباز، ایماندار، پرخلوص۔ أَخْلَصَ لہُ النیۃ: سے وفادارانہ طور پر وابستہ ہونا۔ أَخْلَصَ نیتہُ لِ: سے وفادارانہ طور پر وابستہ ہونا، کی جانب اچھے ارادے رکھنا۔ حَسُنَتْ نیتُہُ فی: سے وفادارانہ طور پر وابستہ ہونا، کی طرف اچھے ارادے رکھنا۔ أَصْلَحَ نیتہ دل میں صحیح ارادہ ابھارنا، عَقَدَ النیۃ علی: کا پختہ ارادہ کرنا، کو کرنے کا عزم صمیم کرنا، کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنا۔ مُنَاوٍ: مخالف، معاند، دشمن۔

نیء: نَاءَ یَنِیءُ نَیْئًا و نُیُوءً و نُیُوءَۃً اللحمُ وغیرُہ: گوشت وغیرہ کا کچا ہونا۔ نَیَّأَ تَنْیِیئًا الامرَ: کام کو ناقص طور سے کرنا۔ أَنْیَأَ إِنْیَاءً اللحمَ: گوشت کو کچا رکھنا۔ النِّیِّءُ من اللحم: کچا گوشت یا نیم پختہ گوشت (اسے النِّیُّ من اللحم بھی کہہ سکتے ہیں)۔ ــ خالص دودھ

○ نَاءَ ــ نَیْئًا و نُیُوءًا و نُیُوءَۃً: کچا ہونا، پکایا ہوا نہ ہونا (خصوصاً گوشت کا) نِیء و نِیّ: کچا، ناپختہ، کل، مجموعی (وزن)

نیب: نَابَ یَنِیبُ نَیْبًاہُ: کو دانت پر مارنا۔ نَیَّبَ تنییبًا تِ الناقۃُ: اونٹنی کا بوڑھی ہونا۔ ــــ النبتُ: نباتات کی جڑیں پھوٹنا۔ ــــ فلانٌ السھمَ: تیر کی لکڑی پر دانت لگا کر نشان ڈالنا۔ ــــ زیدٌ دانت پیسنا، دانت سے کاٹنا۔ ــ فلانًا: کو دانت سے کاٹنا، کہا جاتا ہے: ظَفَرَ فیہ السبعُ و نَیَّبَ: درندے نے اس پر ناخن چبھو کر اسے دانتوں سے کاٹا۔ تَنَیَّبَ تَنَیُّبًا النبتُ: پودے کا جڑیں نکالنا۔ ــــ الشیبُ: بڑھاپا ظاہر ہونا۔ النَّاب جمع أَنْیُب و أَنْیَاب و نُیُوب و أَنَایِیب: کچلی، بوڑھی اونٹنی، تصغیر نُیَیْب جمع أَنْیَاب و نُیُوب و نِیب و نَابُ القوم: قوم کا سردار۔ النَّیُوب: بوڑھی اونٹنی۔ الأَنْیَب م نیباء جمع نِیب: موٹے دانتوں والا۔

○ نَاب جمع أَنْیَاب و نُیُوب و أَنَایِیب: دانت ہاتھی کا دانت، شکاری جانور کا بڑا دانت۔ کَشَّر عن انیابہ: دانت ننگے کرنا۔ نیتروجن: نائٹروجن (Nitrogen)

نیت: نَاتَ یَنِیتُ نَیْتًا: کمزوری سے ڈگمگانا۔

نیح ۱۔ نَاحَ یَنِیحُ نَیْحًا العظمُ: ہڈی کا سخت اور مضبوط ہونا۔ نَیَّحَ تَنْیِیحًا اللّٰہُ عَظْمَہُ: ہڈی کو مضبوط کرنا (خدائی فعل)، کو چوراچور کرنا، کہتے ہیں: ما نَیَّحْتُہُ بخیر: میں نے اسے کچھ نہیں دیا۔ لا نَیَّحَ اللّٰہُ عظامَہ: اللہ اس کی ہڈیاں سخت اور مضبوط نہ کرے۔ نَیَّحَہُ فَتَنَیَّحَ: اس نے اس کو آرام دیا تو اس نے آرام کیا۔ النَّیِّح: سخت۔ عظم نَیِّح: سخت ہڈی۔

۲۔ نَاحَ یَنِیحُ نَیْحًا و نَیَحَانًا الغصنُ: شاخ کا جھکنا۔

۳۔ تَنَیَّحَ فلانٌ: مرنا (سریانی لفظ)

○ مُتَنَیِّح: متوفی، آنجہانی جس کی موت پر افسوس ہو، مرنے والا۔

نیر ۱۔ نَارَ یَنِیرُ نَیْرًا و نَیَّرَ تَنْیِیرًا و أَنَارَ إِنَارَۃً الثوبَ: کپڑا بننا۔ النِّیَار: کپڑے میں کنارہ لگانے والا۔ النِّیر: بانا، کپڑے کے لمبان کے تار، کپڑے کا باڈر، کپڑے کا نقش و نگار، کپڑے کا چھور، راستہ یا سڑک کا کنارہ۔ بنت، راستہ کی نمایاں کھائیاں کہا جاتا ہے: رجلٌ ذو نِیرین: اپنے ساتھی سے دگنی قوت کا مالک۔ حربٌ ذاتُ نِیرَین: سخت جنگ۔ ناقۃٌ ذاتُ نِیرین او ذاتُ انیار: بوڑھی اونٹنی۔ کبھی عورت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ــ ج أَنْیَار و نِیرَان: بیلوں کی گردن پر رکھنے کا جوا۔ النِّیرَۃ: نِیر الثوب کا اسم۔ جلاہے کا کپڑے بننے کا ایک اوزار کہتے ہیں۔ مالَتْ بسَتاۃ ولا لُحمۃ ولا نیرۃ: تو نہ نفع بخش ہے نہ ضرررساں۔ ھذا أَنْیَرُ من ذاک: یہ اس سے زیادہ واضح ہے۔ ثوبٌ مُنَیَّر: دوسوتی کپڑا۔

۲۔ النَّائِر: شرانگیز (شخص) النِّیرَۃ عند العامۃ: موڑا، کہا جاتا ہے: بینھم مُنَایَرَۃٌ: ان کے درمیان اختلاف (نااتفاقی) ہے المُنَیَّر: موٹی جلد۔

۳۔ نَیْرَبَ الرجلُ: چغلی کھانا، جھوٹ گھڑنا، جھوٹ بولنا۔ ــ ت الریحُ الترابَ فوق الشیء: ہوا کا کسی چیز پر مٹی کی ہلکی موجیں پیدا کرنا یا ہلکورے اٹھانا۔ النَّیْرَب: نہٹا کٹا آدمی، چغل خوری، فساد۔ رجلٌ نَیْرَبٌ و ذو نَیْرَب: شریر آدمی۔

۴۔ نَیْرَجَ نَیْرَجَۃً الرجلُ: چغلی کھانا۔ النَّیْرَج: چغل خور، کپڑے کا بیل بوٹا، ہل کی پھالی، غلہ گاہنے کا آلہ۔ ریحٌ نَیْرَجٌ: تند ہوا۔ امرأۃٌ نَیْرَج: نفرت انگیز چالاک عورت۔ کہا جاتا ہے: عدا عدوًا نَیْرَجًا: وہ تیزی اور تذبذب سے دوڑا۔ ہر تیز رفتار نَیْرَج ہے۔

۵۔ النَّیْرُوز عند الفُرس: شمسی سال کا پہلا دن (عموماً) جشن کا دن۔

نیز: النَّیْزَک جمع نَیَازِک: چھوٹا نیزہ (فلک) شہاب ثاقب۔

نیس ۱۔ نَیْسَب و النَّیْسَب و النَّیْسَان: (اس کے لئے دیکھو مادہ (ن س ب)

۲۔ نَیْسَان اپریل (مہینہ کا نام (سریانی لفظ)

نیص: النَّیْص: کمزور حرکت۔ (ح) موٹی سیہی، خار پشت، سیہ۔

نیض: نَاضَ یَنِیضُ نَیْضًا العرقُ: رگ کا حرکت کرنا۔

نیط: نَاطَ یَنِیطُ نَیْطًا و اِنْتَاطَ اِنْتِیَاطًا: دور ہونا۔ النَّیْط (مص) جنازہ، تابوت، موت، اجل موت، کہا جاتا ہے: أتاہُ نَیْطُہُ: اس کی اجل آگئی۔ رَمَاہُ اللّٰہُ بالنَّیْط: کو اللہ تعالیٰ کا موت دینا۔ طعن فلانٌ فی نَیْطِہ: وہ مرگیا (یہاں نیط جنازہ (تابوت) کے معنی میں ہے۔ لفظی معنیٰ ہے: وہ اپنے تابوت میں داخل ہوگیا)

نیع: نَاعَ یَنِیعُ نَیْعًا الغصنُ: ٹہنی کا جھکنا۔ صفت نائع۔ النَّوَائِع: جھکنے والی ٹہنیاں۔

○ نِیقُوسِیا: نکوسیا (جزیرہ سائپرس کا دارالحکومت) نَاكَ یَنِیكُ نَیْكًا ها: عورت سے مجامعت کرنا۔ نِیكل: نکل (دھات کا نام) Nickel

نیل: ۱۔ نَالَ یَنِیلُ ویَنَالُ نَیْلاً و نَالاً و نَالَةً المطلوبَ: مطلوب چیز کو پانا۔ صفت فاعلی: نَائِل صفت مفعولی: مَنِیل: ۔ امر کا صیغہ نِلْ و نَلْ۔ ۔ من فلانٍ پر اثر انداز ہونا، کو نقصان پہنچانا کہا جاتا ہے: نال من عدوّہ مطلوبہٗ: اس نے دشمن سے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ نَالَہ مَطْلُوبَہٗ: کو اس کی مطلوبہ چیز دلانا۔ نَالَنِی من فلانٍ معروفٌ: فلاں کی طرف سے مجھ کو بھلائی پہنچی۔ نَالَ من عِرضِ فلانٍ: کی بے عزتی کرنا، کو گالی دینا۔ نَالَ الرحیلُ: کوچ کا وقت آ پہنچا۔ اما نال لَهُم ان یفقهوا: کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ سمجھیں۔ أَنَالَ إنالةً فلاناً الشیءَ و لفلانٍ الشیءَ: کو کوئی چیز حاصل کرانا، دلانا۔ إسْتَنَالَ استنالةً ہٗ: کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہونا۔ النَّائِل (فا): جو حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے: اصبت منه نائلاً: میں نے اس سے حاصل کی جانے والی چیز حاصل کی۔ النُّولة: جو حاصل کیا جائے۔ النَّیل: جو حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے: اصاب منه نیلاً: اس نے اس سے حاصل کی جانے والی چیز پائی۔ النِّیل: بادل: النَّیلة: جو حاصل کیا جائے۔

۲۔ النَّالة: گھر کا صحن۔ النِّیل (ن): نیل کا پودہ۔ ایک سخت تنے، باریک شاخوں چھوٹے پتوں کا پودا، جس کے دونوں طرف پتھر کا فرش ہوتا ہے۔ نیل (پودوں سے حاصل کیا ہوا رنگ)

۳۔ النِّیلَج: نیل کا رنگ۔ ۔ و النَّیلُنج: چربی کا کاجل جو گودنے کے کام میں آتا ہے۔ عربی میں اس کا نام النَّوُور ہے۔

۴۔ النَّیلَوفَر (ن): نیلوفر۔ النَّیلَوفَرِیَات (ن): خوبصورت آبی پودے۔

۵۔ النَّیلُون: نائلون، نیلون Nylon (ایک مادہ جس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں)

○ نَالَ ـَ نَیْلاً ومَنَالاً ہ کو حاصل کرنا، پر قابض ہونا، کو جیتنا، کمانا۔ — ہ ل کو کیلیے حاصل کرنا۔ — من ہ: سے کسی چیز کو بجالانا۔ — من ہ کے ساتھ میں کامیاب ہونا۔ — ہ من سے کوئی چیز حاصل کرنا۔ — من پر اثر انداز ہونا، کو نقصان پہنچانا، کا کی طرف سے دل پھیرنا، نال من عِرضه کی برائی کرنا، مذمت کرنا، کو بے وقعت کرنا، کو بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا، پر تہمت لگانا، کو بدنام کرنا، پر بہتان باندھنا، پر تہمت لگانا۔ نال منه او فرمنال: کو سخت نقصان پہنچانا۔ ناله بسُوء: کو نقصان پہنچانا۔ نَالَهُ بِضُرّ: کو نقصان پہنچانا، نال من نفسه ابلغ منال: اس (بات) نے اس پر گہرا ترین اثر کیا۔ أنال ہ/ل ہ کو کوئی چیز حاصل کرانا۔ دلانا یا کوئی چیز حاصل کرنے دینا۔ — ہ ل / ہ ہ: کیلیے کوئی چیز حاصل کرنا، نَیل حصول۔ اکتساب، دستیابی، ہمدردی، مہربانی، کرم فرمائی۔ مَنَال حصول، کامیابی، کارنمایاں، اکتساب، دستیابی۔ بعید المنال: ناممکن الحصول، غیر محسوس، حقیقت سے بعید۔ صعبُ المنال: ناممکن الحصول۔ سَهْلُ المنال یا قریبُ المنال: ممکن الحصول، جسے حاصل کرنا آسان ہو۔ ممکن المنال: ممکن الحصول۔ نائِل: حاصل کرنے والا، کمانے والا، جیتنے والا، کرم فرمائی، مہربانی، ہمدردی، فائدہ، نفع، عنایت، عطیہ، تحفہ۔ نَیَّلَ ہ کو نیل دینا (نیل سے رنگنا)۔ نِیل و نِیلة: نیل کا پودا، نیل۔ مُنَیَّل نیل دیا ہوا۔ نَیَّلَ دریائے نیل کے پانی کو مٹی زرخیز بنانے کے لئے کھیتوں میں بھیجنا۔ النِّیل دریائے نیل۔ زمن النیل: دریائے نیل کی طغیانی کا وقت۔ عرائس النیل: بمن، نرگس یا سوسن آبی پودے کے سفید پھول۔ نِیلی: دریائے نیل کا۔ مَنْیَل: نیلومیٹر: دریائے نیل کی سیلابی بلندی ناپنے کا میٹر۔ تَنْیِیل: آبپاشی یا سیلاب کے ذریعے مٹی کو زرخیز بنانا۔

نیه: نَاهَ یَنَاهُ نَیْهًا الشیءُ: چیز کا بلند ہونا، پسند آنا۔ النَّائِه: بلند، اونچا، نمایاں۔ کہا جاتا ہے: نفسٌ ناهَةٌ: بدی سے رکنے والا نفس۔

نیم: النِّیم دیکھو مادہ ن وم

○ نِینَہ: ناں

نیو: النِّیُون (ف) نِیون (neon)

○ نِیُور الجیا: اعصابی درد۔

نِیُوزِیلانْدَہ: نیوزیلینڈ (ایک ملک کا نام)

ضوء نیونی: نیون روشنی Neon light

نیی: النای: جمع نایات (مو) بانسری (فارسی لفظ)

و

و: تلفظ الواو۔ حروف تہجی کا ستائیسواں اور حروف ابجد میں اس کا عدد "٦" ہے۔ مندرجہ ذیل معانی دیتا ہے۔

(١) حروف عطف جس کا معنی جمع کرنا ہے اور دو لفظوں یا جملوں کو جمع کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں "اور" کے معنے دیتا ہے۔ جیسے جاء زیدٌ و عمروٌ: زید اور عمرو آئے۔

(٢) واو الحال: (الف) جملہ اسمیہ پر آتا ہے جیسے جاء زیدٌ والشمس طالعةٌ: زید سورج طلوع ہونے کے وقت آیا۔ (ب) جملہ فعلیہ پر آتا ہے جیسے: جاء زید وقد طلعت الشمسُ: جب زید آیا تو سورج نکل چکا تھا۔

(٣) واو الاستئناف (لزوم): جیسے: لاتاکل السمك و تشرب اللبن دودھ پینے کے ساتھ مچھلی نہ کھاؤ یعنی ایسا نہ کرو کہ مچھلی کھاؤ اور دودھ بھی پیو۔

(٤) واو المعیة جیسے: سرتُ والجبلَ میں پہاڑ کے ساتھ چلا۔

(٥) مضارع منصوب پر داخل ہونے والی واو، جب مضارع منصوب صریح اسم پر عطف ہو جیسے: ولبسُ عباءَةٍ و تقرَّ عینی: عباء پہننا اور خوش ہونا، یا اس کی صریح اسم سے تشریح کی گئی ہو جیسے: لاتنهَ عن خُلُقٍ و تَأتیَ مثلهُ: بایں شرط کہ واو سے پہلے نفی یا طلب آئے۔ (اپنے آپ کو جبلی خصوصیت سے نہ روک جس جیسی خصوصیت کو تو بروئے کار لاتا ہے)۔

(٦) واو قسم جیسے: واللّٰہ العظیم: خدائے عظیم کی قسم۔

(٧) واو رُب جیسے: ولیلٍ کموج البحر ارخی سدولهٗ: سمندر کی لہر کی طرح کئی راتوں نے پردے گرائے۔

(٨) واو ضمیر الذکور جیسے: قاموا: (وہ کھڑے ہوئے)۔

(٩) واو علامة جمع مذکر: جیسے: یلوموننی قومی: میرے بھائی بند مجھے ملامت کرتے ہیں۔

(١٠) واو فصل جیسے واؤ عمرو رفعی اور جری حالت میں تاکہ عمر سے ممتاز ہو۔

(١١) واو زائدہ مثلاً الا کے بعد جیسے: مَامِن احدٍ الا ولہ طمعٌ او حسدٌ: لالچ یا حسد کے بغیر تو کوئی بھی نہیں۔

○ و: اور۔ اور نیز اور۔ بھی۔ ولا واحد: ایک نہیں، صرف ایک نہیں۔ (٢) ساتھ۔ وإیّاهُ: اس کے ساتھ۔ لایتّفِقُ و مَبَادئهُمْ: یہ ان کے اصولوں سے ہم آہنگ نہیں۔ (٣) کے دوران میں، جب، حالانکہ۔ قال و هو یتبسم: اس نے مسکرانے کے دوران کہا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جاء والشمسُ طالعةٌ: وہ طلوع آفتاب کے وقت آیا۔ (٤) (کی) قسم: واللّٰہ: خدا کی قسم۔ (٥) کئی، کتنے۔ وکأسٍ شربتُ: میں نے کئی پیالے خالی کئے ہیں۔ میں نے کتنے ہی پیالے پی ڈالے ہیں۔ وإلا: اور اگر نہیں، اور طرح، ورنہ۔ وإن: اگرچہ، ہرچند، باوجودیکہ، گو۔ ولَو: اگرچہ، ہرچند، باوجودیکہ، گو، اُس صورت میں۔ ولکِنْ و لکِنَّ: لیکن، مگر، تاہم، پھر بھی۔

وا: یہ واو ندبہ سے مختص حرف نداء ہے۔ جیسے: وازیداهُ: ہائے زید! واظُهراهُ: ہائے دوپہر، کبھی کبھی حقیقی نداء کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

○ وابور: سٹیم انجن، بھاپ سے چلنے والا انجن، سٹیمر، بھاپ سے چلنے والا جہاز، دخانی کشتی، دخانی جہاز، ریل کا انجن، ریل گاڑی، فیکٹری، ہیٹر، سٹوو، مل، مشین، انجن، سامان، گرم چادر (دھات کی)۔ وابور اکسبریس: ایکسپریس ٹرین، تیز رو، تیز گام، سبک خرام۔ وابور البضاعة: مال گاڑی۔ وابور الرّکاب: پسنجر ٹرین۔ وابورُ الریّ: آبپاشی پمپ۔ وابورُ الزّلَط: سٹیم رولر (سڑک کوٹنے کا انجن)۔ وابور طارة: چپو کشتی۔ وابور العادة: لوکل ٹرین۔ وات: واٹ (برقی قوت کی اکائی)

واح: الْوَاح و الواحَة جمع واحَات: نخلستان (ریگستان میں سبزہ زار)۔

وأ: وَأَ وأْ وَأوَةً الکلبُ: کتے کا چیخنا۔ کہا جاتا ہے: ماسمعت الا وعوَعةَ الذئاب و وأوَاةَ الکلاب: میں نے بھیڑیوں اور کتوں کی چیخنے کی آوازوں کے سوا کچھ نہیں سنا۔

وأب: ا۔ وَأَبَ یئِبُ وَأْبًا و إبَةً من فلان: کسی سے شرم و حیا کرنا اور جھجکنا۔ أوْأَبَ و أتْأَبَهُ: کے ساتھ شرمناک فعل کرنا، کو حاجت سے ذلت کے ساتھ پھیر دینا۔ إتّأَبَ إتِّابًا منه: سے شرم و حیا کرنا۔ الإبَة و التُّؤَبَة والمَوئِبة والمُوئِبة: رسوائی، عار، حیا۔ المُوئِبات: رسوا کرنے والے کام۔

٢۔ وَئِبَ یوْأَبُ وَأْبًا: غضبناک ہونا۔ أوْأَبَ و اتّأَبَهُ: کو غضبناک کرنا۔

٣۔ الوَأْب جمع أوْآب: بڑا اونٹ۔ ۔من الحوافر: متصل کناروں والا مضبوط کھر۔ ۔من القداح: بڑا پیالہ، وسیع، کشادہ۔ الوَأبَة: چٹان کا گڑھا۔ ۔والوَئِبَة: گہرا کنواں۔

وأج: الوَأْج: سخت بھوک۔

وأد: وَأَدَ یَئِدُ وَأْدًا البنتَ: لڑکی کو زندہ در گور کرنا۔ صفت مفعولی: وَئِید و وَئِیدَة و مَوْؤُدَة۔ ۔فلانًا: کو بوجھل کرنا۔ تَوَأَّدَ فی الامر: کسی امر میں مہلت و

آہستگی سے کام لینا۔ ــ ت علیه الارضُ: زمین کا کسی کو چھپانا، غائب کرنا۔ ــ تِ المرأۃُ فی قیامِها: بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے عورت کا لچکنا اِتَّأَدَ فی الامر: کسی کام میں مہلت اور آہستگی سے کام لینا۔

الوَأْدُ (مص): سخت دھما کا جیسے دیوار گرنے سے ہوتا ہے۔ اونٹ کی آواز الوَئِید: سخت آواز، اونٹ کی آواز، پیروں کی آہٹ جو دور سے سنائی دے ــــ

والتُّؤَدَۃ و التَّوَآد: سنجیدگی، متانت۔ کہا جاتا ہے: مشی مشیاً وئیدا: وہ متانت اور سنجیدگی کی چال چلا المَوَائِد: مصائب۔

۲ وَأَدَ یَئِدُها: نومولود بچی کو زندہ دفن کرنا تَوَأَّدَ و اِتَّأَدَ فـی: میں آہستہ ہونا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا یا اٹھاتے رہنا، سستی کرنا، ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متامل ہونا، تامل کرنا، تاخیر کرنا، دفع الوقتی کرنا اِتَّأَدَ فی مِشْیَتِهِ: آہستہ چلنا ٹہلنا وئیـد: آہستہ، سوچ سمجھ کر اٹھا ہوا (قدم)، سوچ بچار لا وئیداً: آہستہ، بتدریج تُؤَدَۃ: سوچ سمجھ، سوچ بچار، آہستگی علی تؤدۃ: آہستہ، سوچ سمجھ کر مُتَّئِد: آہستہ۔

وار: ۱ وَأَرَ یَئِرُ وَأْرًا و اِرَۃً الرجُلَ: کو گھبرا دینا ــ النارَ و للنارِ: آگ جلانے کے لئے گڑھا تیار کرنا۔ ــ وَأَرَ تَوْئِیرا فلاناً: کو مصیبت میں ڈالنا اَوْأَرَ اِیئاراً ہُ: کو خوفزدہ کرنا، دور بھگانا اِسْتَوْأَرَتِ الابلُ: اونٹوں کا بدک کر پہاڑ پر چڑھ جانا الوائِر (فا): خوفزدہ الاِرَۃ: آگ، دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت، اوجھ میں رکھ کر پکایا جانے والا گوشت، آگ کی شدت اور بھڑک، دشمنی، کوہان کی چربی ــ جمع اِرَات و اِرُون والوُؤْرَۃ جمع وُأَر و اُوَر: چولہا، انگیٹھی اِرضٌ وَئِرَۃ: سخت گرم زمین الوِئار: چکنی مٹی کے گڑھے۔

۲ اَوْأَرَ اِیئاراً ہُ: کو آگاہ کرنا۔

۳ وَأَرَ یَئِرُ وَأْرًا ہُ: کو ڈرانا اِسْتَأْرَ: ڈرنا، دہشت زدہ ہونا وارسو: وارسا (پولینڈ کا دارالحکومت) واشنطون: واشنگٹن (امریکہ کا ایک مشہور شہر)

واص: وَأَصَ یَئِصُ وَأْصًا به الارضَ: کو زمین پر دے مارنا۔

۲ تَوَأَّصَ القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا، پانی پر بھیڑ کرنا۔ الوَئِیصَۃ: جماعت، مخلوق۔ کہا جاتا ہے ما اَدری ایُّ الوئیصۃ ہو: میں نہیں جانتا وہ کونسا آدمی ہے۔

واط: ۱ وَأَطَ یَئِطُ وَأْطًا القومُ: لوگوں سے ملاقات کرنا۔

۲ وَأَطَ یَئِطُ وَأْطًا الشیءُ: جوش میں آنا الوَأْطَۃ

مِنَ الأرضِ: بلند زمین ــــ مِنَ الماءِ: پانی کی گہرائی۔

واط: واٹ (Watt، برقی قوت کی اکائی) ۔ وَاق

واق: (عربی جغرافیہ دانوں کے نزدیک جزیروں کے دو مختلف مجموعوں کا نام (ایک چین کے مشرق میں دوسرا بحر ہند میں)۔

وال: ۱ وَأَلَ یَئِلُ وَأْلاً و وئیلاً و وُؤُولاً و وَاءَلَ وِئالاً و مُوَائَلَۃً المکانُ: جگہ کا تہ بہ تہ مینگنیوں والا ہونا اَوْأَلَ المکانَ: جگہ کو تہ بہ تہ مینگنیوں والا کرنا۔ ــ ت الماشیۃ فی المکان او الکلاء: مویشی کا جگہ یا چراگاہ کو پیشاب اور مینگنیوں سے خراب کرنا۔ اِسْتَوْأَلَ اِسْتِیئالاً تِ الابلُ: اونٹوں کا اکٹھا ہونا۔ الوَأْلَۃ: اونٹوں اور بکریوں کی تہ بہ تہ مینگنیاں۔

۲ وَأَلَ یَئِلُ وَأْلاً و وئیلاً و وُؤُولاً و وَاءَلَ و ئالاً و مُوَاءَلَۃً من کذا: سے نجات طلب کرنا۔ ــ الیه: کے پاس پناہ لینا ــــ الی المکان: کسی جگہ دوڑ کر جانا۔ ــ فلاناً: کو پناہ بنانا ــ الی اللّٰہِ: اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا الوَأْل و المَوْئِل و المَوْئِلَۃ: جائے پناہ۔

۳ الأَوَّل: مادہ اول دیکھیں۔

وام: وَأَمَ یَوْئِمُ تَوْئِیمًا ہُ: کو بدشکل کرنا المُوَأَّم: بدشکل، بڑے سر والا۔

۲ وَاءَمَ وِئامًا و مُوَاءَمَۃً ہُ: سے موافقت کرنا۔ ضرب المثل ہے لولا الوئام لهلک الانام: اگر موافقت نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے (ہر شخص دوسرے کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا)۔ کہا جاتا ہے لولا الوئام هلک اللئام: اگر ہر شخص حسن و خوبی میں فخر کرتا ہوتا اور نیک عمل نہ ہوتا تو کمینے لوگ ہلاک ہو جاتے اَتْأَم اِتْآماً تِ المرأۃُ: عورت کا جڑواں بچے جننا۔ صفت: مُتْئِم۔ تَوَاءَمَ: موافق ہونا، متناسب ہونا الوُؤَام: گرم کمرہ الوَأْمَۃ: نقال، ریس کرنے والا المُتَوائِم فاغناءٌ مُتَوَائِمٌ: متناسب گیت، ہم آہنگ سر والا گانا۔

۳ وَاءَمَ ہ/ہ: سے ہم آہنگ ہونا، سے اتفاق کرنا، سے متفق ہونا، کے لئے موزوں ہونا، کو راس آنا، کی ضرورتوں کے لئے کافی ہونا تَوَاءَمَ: ہم آہنگ ہونا، متفق ہونا، مطابق ہونا وئام: اتفاق، اتحاد، ہم آہنگی، مطابقت، میل مُوَاءَمَۃ: اتفاق، اتحاد، ہم آہنگی، مطابقت، میل۔

وای: ۱ وَأَی یَئِي وَأْیًا: وعدہ کرنا ــ الشیءَ: کا ذمہ دار ہونا ــ اِتَّأَی اِتِّئاءً: آپس میں اتفاق کرنا، میں

سمجھوتا ہونا اِسْتَوْأَی اِسْتِیئاءً الرجلَ: سے وعدہ لینا الوَأْی (مص): وعدہ، وہم، گمان۔

۲ تَوَاءَی تَوَائِیًا القومُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا الوَأْی: لوگوں کی تعداد الوَأْی م وَآۃ من الدوابّ: بہت تیز رفتار جانور الوَئِیَّۃ: بڑے بڑے پیالے، بڑے پیٹ والی اونٹنی ــ والوَأْیۃ: بڑی ہانڈی، بڑا پیالہ۔

وا: وَاہُ و واهًا ل/ب: وہ کتنا حیرت انگیز ہے (یا ہیں)۔ ــ علی: افسوس ...... کے لئے بہت برا واوا: حروف ویہ کیتلی۔

وب: وَبَّ یَوُبُّ وَبًّا: لڑائی میں حملہ کے لئے تیار ہونا۔

وبا: ۱ وَبَأَ یَوْبَأُ وَبْأً و وَبَّأَ المتاعَ: سامان کو ترتیب سے جمانا وَبِیَ یَوْبَأُ و یَبْبَأُ وَبْأً و بَؤُ یَوْبُؤُ وباءً و وَبَاءَۃً و اِباءً و اِباءَۃً و وُبِیَ یُوبَأُ وَبْأً و اَوْبَأَ المکانُ: کسی جگہ کا وبا زدہ یا زیادہ وبا والی ہونا۔ اسم۔ البنۃ یَوْبَأُ البلدَ: شہر کی آب و ہوا کو نا موافق پانا۔ اِسْتَوْبَأَ اِسْتِیباءً المدینۃَ: شہر کو وبا زدہ پانا الوَبَأ جمع اَوْباء و الوَباء جمع اَوْبِئَۃ: عام متعدی یا وبا کی بیماری الوَبِی و الوَبِیُّ و الموبُوءُ: بہت وبا والی (جگہ) ان کا مؤنث ت سے آتا ہے۔

۲ وَبَأَ یَوْبَأُ وَبْأً و اَوْبَأَ الیه: کی طرف اشارہ کرنا۔

۳ المُوبِیُٔ (فا): تھوڑا پانی، منقطع پانی۔

۴ وَبِیَ یَوْبَأُ وَبْأً و وَبُؤَ وَبَاءً و وَبَاءَۃً و اَوْبَأَ: پلیگ زدہ ہونا، چھوت زدہ ہونا، پھیلی ہوئی بیماری کے جراثیم والا ہونا، زہریلا ہونا، میں کثرت سے ہونا، زہر آلود ہونا، مسموم ہونا، آلودہ ہونا، ناپاک ہونا، میں جراثیم کا پہنچا ہوا ہونا وَبَاء جمع اَوْبِئَۃ: متعدی یا وبائی مرض، وبا وَبَائِی: وبائی، متعدی، چھوت والی، اڑتی یا لگتی بیماری والا، مہلک، اخلاقی یا سیاسی (وغیرہ) طور پر ضرر رساں وَبِیّ و وَبِیء: بمعنی وَبَائِی۔ مَوْبُوء: زہریلا، مسموم، زہر آلود، آلودہ، ناپاک ــــ ب: میں سرایت شدہ، بیماری وغیرہ لگا ہوا، سے متاثر۔

وبت: وَبَتَ یَبِتُ وَبْتًا بالمکان: جگہ میں اقامت کرنا۔

وبخ: وَبَّخَ ہُ: کو ملامت کرنا، دھمکی دینا، عار دلانا۔ الوَبْخَۃ: ملامت الزام، جھڑک، تکلیف دہ ملامت۔

وَبَّخَ ہ علی: پر کو سرزنش کرنا، ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھاڑ جھپاڑ کرنا، ملامت کرنا، الزام لگانا، پر کی مذمت کرنا، پر کو جھڑکنا، برا بھلا کہنا، پر کو سخت سست کہنا۔ تَوْبِیخ: ملامت، سرزنش، ڈانٹ، ڈانٹ ڈپٹ، جھاڑ جھپاڑ، الزام، ملامت، زجر و توبیخ۔

وبد: اَوَبِدَ يَوْبَدُ وَبَدًا: بدحال اور کم مال والا ہونا صفت وَبِد ۔ الثوبُ: کپڑے کا پرانا ہونا ۔۔۔ النهارُ: دن کا سخت گرم ہونا ۔۔۔ علیه: پرغضبناک ہونا ۔ اَوْبَدَ اِيْبَادًا ةُ: کو جدا کرنا ۔ تَوَبَّدَ امرَ الهَم: نظر لگانے کے لئے مال کو متعین کرنا ۔ الوَبَد (مص): بدحالی، تنگ زندگی (کہا جاتا ہے فلانٌ في وَبَدٍ: فلاں شخص بدحال ہے، رجلٌ وَبَدٌ: بدحال ۔ (واحد جمع) کبھی اَوْبَاد جمع لاتے ہیں ۔) گرمی، عیب ۔ الوَبِد: بھوکا ۔۔۔ و المُتوبِّد: بہت تیز نظر بد لگانے والا ۔ قومٌ اَوْبَادٌ: کنگال لوگ ۔ المُستوبِد: بدحال، کسی جگہ سے ناواقف ۔

۲۔ الوَبْد و الوَبَد: پہاڑ کا گڑھا ۔

وبر: اَوَبَرَ يَبِرُ وَبْرًا بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا ۔ وَبِرَ يَوْبَرُ وَبَرًا و اَوْبَرَ اِيْبَارًا: بہت پشم والا ہونا ۔ صفت وَبِر و اَوْبَر مونث وَبِرَة و وَبْرَاء ۔ وَبَّرَ: پشم دار ہونا ۔۔۔ ت الأرنبُ: ہرن کا اپنی ٹانگوں کے پشم پر چلنا تاکہ تعاقب نہ کیا جا سکے ۔۔۔ الثعلبُ: لومڑی کا نشان چھپانے کے لئے سخت زمین پر چلنا ۔۔۔ علیه الامرَ: پر معاملہ پوشیدہ رکھنا ۔ الرجلُ بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا ۔۔۔ فلانٌ: بھاگنا، متوحش ہونا، تنہا زندگی بسر کرنا ۔ الوَابِر: فا ۔ کہا جاتا ہے ما بالدار وابِرٌ: گھر میں کوئی نہیں ۔ الوَبْر جمع وُبُور و وِبَار و وِبَارَة (ح): چھوٹا جنگلی خرگوش، سردی کے آخری سات دنوں میں سے ایک دن ۔ الوَبْرَة (ح): چھوٹے جنگلی خرگوش کی مادہ ۔ الوَبَر (مص) اَوْبَار: اونٹ اور خرگوش کے بال ۔ اَهلُ الوَبَر: دیہاتی لوگ، بدو لوگ ۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَ الشيءَ بِوَبَرِه: اس نے سب چیز لے لی ۔ الوَبَرَة: وَبَر کا واحد ۔ بناتُ الاَوْبَر و بناتُ اَوْبَر (ن): ایک قسم کی بدمزہ سانپ کی چھتری ۔ کہا جاتا ہے: لقيتُ منه بناتِ اَوْبَر: میں نے اس سے مصیبت پائی ۔

۲۔ وَبَّرَتِ النخلةَ: کھجور کے درخت میں گابھا دینا ۔

۳۔ الوَابُور (بعض اسے بابُور کہتے ہیں) جمع بَوَابِير: دخانی کشتی یا جہاز (اٹلی یا فرانس کا لفظ) ۔

☺ وَبِرَ يَوْبَرُ وَبَرًا: بہت بالوں یا اون والا ہونا، گھنے بالوں سے ڈھکا ہونا، بالوں سے بھرا ہونا، روئیں دار ہونا، ریشم دار ہونا ۔ وَبَر جمع اَوْبَار: بال، اونٹوں اور بکریوں کی پشم، پوستین ۔ اهلُ الوَبَر: بدو لوگ (اس کے مقابل اهلُ المَدَر: شہری لوگ) ۔ وَبِر: بالوں سے ڈھکا ہوا، بال دار، روئیں دار، ریشم دار ۔ اَوْبَر مونث وَبْرَاء: بالوں سے ڈھکا ہوا، بال دار، روئیں دار، پشم دار ۔ مُوَبَّر: بال دار، روئیں دار، اونی، پشمی ۔

وبش: اَوَبِشَ يَوْبَشُ وَبَشًا الظفرُ او جلدُ البعير: ناخن یا اونٹ کی کھال کا سفید داغ والا ہونا ۔ صفت وَبِش ۔ وَبَّشَ توبیشًا الجمرُ: چنگاری کا سلگنا ۔۔۔ ت الأظفارُ: ناخنوں کا سفید داغ والا ہونا ۔۔۔ القومُ في امرٍ: میں ہر طرف سے بھیڑ کر کے آنا ۔۔۔ للحرب: لڑائی کے لئے مختلف قبائل سے لوگوں کو جمع کرنا ۔ اَوْبَشَ تِ الارضُ: زمین کا مخلوط پودوں والی ہونا ۔ الوَبْش و الوَبَش: اونٹ کی جلد پر کھجلی کے داغ، ناخن کے سفید داغ ۔ اَوْبَاش کا واحد: کمینے لوگوں میں سے ایک ۔ وَبَشُ الكلام: ردی کلام ۔ کہا جاتا ہے ما بهذه الارض الا اَوْبَاشٌ من شجر او نبات: اس زمین میں تھوڑے سے بکھرے ہوئے اور متفرق درخت یا پودے ہیں ۔

۲۔ اَوْبَشَ: جلدی کرنا ۔

☺ وَبَش: نکمی چیز، ردی چیز، الابلا، درخت کی کتری ہوئی شاخیں، کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک، آخور، بیہودہ گفتگو، واہیات جمع اَوْباش: رذیلوں کی ٹولی، تیل تنبولی، نیچ ذات کے لوگ ۔

وبص: اَوَبَصَ يَبِصُ وَبْصًا و وَبِيصًا و وَبَصَةً: چمکنا ۔ صفت وَابِص ۔۔۔ الجروُ: پلے کا آنکھیں کھولنا ۔۔۔ تِ الارضُ: زمین کا بہت نباتات والی ہونا، زمین کی نباتات کا اُگنا ۔ وَبِصَ يَوْبَصُ وَبَصًا: چست ہونا صفت وَبِص ۔ وَبَّصَ الجروُ: پلے کا اچھی طرح آنکھیں کھولنا ۔ اَوْبَصَ تِ النارُ: آگ کا روشن ہونا، آگ کا شعلہ اٹھنا ۔۔۔ ت الارضُ: زمین کا بہت نباتات والی ہونا، زمین کی نباتات کا اگنا ۔ اَبْيَصُ و اَبْصٌ: سفید چمکدار ۔ الوَابِصَة: چمک، کوند ۔ کہا جاتا ہے ما في النار وابصةٌ: آگ میں چنگاری نہیں ۔۔۔ و الوَبِيصَة: آگ ۔ الوَبَّاص: چاند، بہت چمکدار رنگ والا ۔ عَارِضٌ وَبَّاصٌ: بہت بجلی چمکانے والا بادل ۔

۲۔ وَبَّصَ لهُ بيسيرٍ: کو تھوڑا دینا ۔

وبط: وَبَطَ يَبِطُ وَبْطًا الجرحَ: زخم کھولنا ۔۔۔ الرجلَ: کی قدر گھٹانا ۔۔۔ فلانًا عن حاجته: کو اس کی حاجت سے روک دینا ۔۔۔ وَبْطًا ۔۔۔ وَبِطَ يَوْبَطُ و وَبُطَ يَوْبُطُ وَبْطًا و وَبَطًا و وُبُوطًا و وَبَاطَةً: کمزور ہونا، خسیس ہونا یا بزدل ہونا ۔ اَوْبَطَ ةُ: کو کمزور کرنا، معذور کرنا، بیکار کر دینا، اپاہج بنا دینا، لولا لنگڑا کر دینا ۔ الوَابِط: خسیس، کمزور، بزدل، اترنے والا، گرنے والا ۔ الوُبَاط: کمزوری ۔

وبق: اَوَبَقَ يَبِقُ و وَبِقَ يَبَقُ وَبْقًا و وَبِقَ يَوْبَقُ وَبَقًا و وُبُوقًا و مَوْبِقًا و اِسْتَوْبَقَ: ہلاک ہونا ۔ صفت وَبِق اَوْبَقَ اِيْبَاقًا ةُ: کو ہلاک کرنا ۔ المُوبِق: ہلاکت کی جگہ، وعدہ کی جگہ ۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ يركبُ المُوبِقاتِ: فلاں شخص مہلک گناہ کرتا ہے ۔ و يَفعلُ المُوبِقاتِ: گناہ کرتا ہے، معاصی کا مرتکب ہوتا ہے ۔

۲۔ اَوْبَقَ اِيْبَاقًا ةُ: کو ذلیل کرنا، مطیع کرنا، قید کرنا ۔ المَوْبِق: دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز، قید خانہ ۔

☺ وَبَقَ يَبِقُ و وَبِقَ يَوْبَقُ وَبْقًا و وُبوقًا و مَوبقًا: ہلاک ہونا، تباہ ہونا، برباد ہونا ۔ اَوْبَقَ ةُ: کو تباہ کرنا، ذلیل کرنا، کے جذبات کو ٹھیس لگانا یا مجروح کرنا ۔ مَوْبِق: تباہی و بربادی کی جگہ، جیل، قید خانہ ۔ مُوْبِقَة جمع مُوبِقات: سخت جرم، جرم اور تشدد کا عمل، مہلک یا جان لیوا گناہ ۔

وبل: وَبَلَ يَبِلُ وَبْلًا فلانًا بالعصا: کو لاٹھی سے لگاتار مارنا ۔۔۔ الصيدَ: شکار کا سخت تعاقب کرنا ۔۔۔ تِ السماءُ: آسمان کا بہت بارش برسانا ۔ وَبُلَ يَوْبُلُ وَبْلًا و وَبَالًا و وُبُولًا و وَبَالَةَ الشيءُ: سخت ہونا ۔۔۔ المكانُ: جگہ کا مضر صحت ہونا ۔ وَابَلَ مُوَابَلَةً ةُ: (کسی کام) کو کرتے رہنا، جاری رکھنا ۔ اِسْتَوْبَلَ اِسْتِيبَالًا المكانَ: جگہ کو مضر صحت پانا ۔۔۔ ت الإبلُ: اونٹوں کا چراگاہ کے مضر صحت ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جانا ۔ الوَابِل: بہت بارش، اولہ، ژالہ، بوچھاڑ ۔ الوَابِلَة: وابل کا مونث، بازو یا ران کا اوپر کا حصہ ۔ الوَبْل: بہت بارش، اولہ، ژالہ، بوچھاڑ ۔ الوَبْلَة و الأبلَة: آب و ہوا کی خرابی، بدہضمی، بوجھ، سختی ۔ کہا جاتا ہے: اَخَذَتْهُ وَبْلَةُ الطعامِ او ابلةُ الطعامِ: اس کو بدہضمی ہو گئی ۔ الوَبَال (مص): سختی، آب و ہوا کی ناموافقت، برا انجام ۔ الوَبِيل: ناقوس بجانے کی لکڑی، دھوبی کی موگری، سخت، زم شاخ ۔ مَرعًى وَبِيلٌ: مضر صحت چراگاہ ۔ طعامٌ وَبِيلٌ: وہ کھانا جس کے ضرر کا اندیشہ ہو ۔ کہا جاتا ہے: اَبِيلٌ عَلَى وَبِيلٍ: لاٹھی سے سہارا لینے والا بوڑھا ۔ و الوَبِيلة و المَوْبِل: موٹی لاٹھی، لکڑیوں کا گٹھا ۔ المِيبَل: موٹی لاٹھی، ڈنڈا، لکڑیوں کا گٹھا ۔ المِيبَل و المِيبَلة جمع مَوَابِل: کوڑا، اونٹوں کو مارنے کی چمڑے کی پٹی جو لکڑی کے سرے پر بندھی

ہوتی ہے۔

وَبَلَ یَوْبُلُ و بَالاً و وَبَلاً و وبالةً و وُبُولاً: موسم یا آب وہوا کا یا ہوا کا مضرصحت ہونا، ناخوشگوار یا نقصان دہ ہونا۔ وَبَال: موسم، ہوا، آب وہوا کی ناموافقت، غیر صحت بخشی، کسی کام کا برا انجام، نقصان، برائی، لعنت۔ وَبِیل: غیر صحت بخش، مضرصحت، ناگوار (آب و ہوا، خوراک) برے انجام والا، نقصان دہ، ضرر رساں، منحوس، مصیبت بھرا، مصیبت انگیز۔ وَابِل: تیز بارش، (مجازاً) بوچھاڑ، ژالہ، اولہ۔ أُمْطِرَهُ وَابِلاً من الرصاص: پر گولیوں کی بوچھاڑ کرنا۔ أُمْطِرَ عَلَیه وَابِلاً من الشتم: پر گالیوں کی بوچھاڑ کرنا۔

وبن: کہا جاتا ہے: ما بالدار وَابِنٌ: گھر میں کوئی نہیں۔ الوَبْنَة: اذیت، بھوک۔

وبه: وَبَهَ و وَبِهَ یَوْبَهُ وَبْهًا و وَبَهًا و وُبُوهًا و أَوْبَهَ إِیْبَاهًا لفلان وبه: پر التفات کرنا، دھیان کرنا، توجہ کرنا، کا لحاظ کرنا، کی پرواہ کرنا، کا خیال کرنا، کی طرف توجہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لا یُوبَهُ به اولهٗ: فلاں کی پروا نہیں کی جاتی۔

وتأ: وَتَأَ یَتَأُ وَتْأً فی مشیته: سست رفتار سے چلنا۔ وَاتَأَ مُوَاتَأَةً و وِتَاءً علی الأمر: کسی کام میں موافقت کرنا، کا کہنا ماننا، فرمانبرداری کرنا۔

وتح: وَتَحَ یَتِحُ وَتْحًا و تِحَةَ العطاءَ: بخشش کو کم کرنا۔ وَتُحَ یَوْتُحُ وَتَاحَةً و وَتْحَةً و وُتُوحَةً العطاءُ: بخشش کا کم ہونا۔ وَتَّحَ تَوْتِیحًا العطاءَ: بخشش کو کم کرنا۔ أَوْتَحَ إِیتَاحًا العطاءَ: بخشش کو کم کرنا۔ الرجلُ: آفت پڑنے پر کم مال والا ہونا۔ فلاناً: کو رنج و مشقت میں ڈالنا۔ لهٗ الشیءَ: کے لئے چیز کو کم کرنا۔ تَوَتَّحَ تَوَتُّحًا من الشراب: مشروب یا شراب تھوڑی پینا۔ الوَتْح: کم، ناچیز۔ طعامٌ وَتْحٌ: بے برکت کھانا۔ الوَتِیح: کم تھوڑا، ناچیز۔ رجلٌ وَتِیحٌ: خسیس آدمی۔ کہا جاتا ہے: ما أغنی عنه وتحةً: اس نے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ الوَتِیح: کم، ناچیز۔

وتخ: وَتَخَ یَتِخُ وَتْخًا الرجلَ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ أَوْتَخَ إِیتَاخًا من فلان: کو انتہائی مشقت کو پہنچانا۔ الوَتْخَة: کیچڑ۔ کہا جاتا ہے: ما أَغْنَی عنه وَتْخَةً: اس نے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ المِیتَخَة: لاٹھی۔

وتد: وَتَدَ یَتِدُ وَتْدًا و تِدَةً الوتدُ: میخ گڑنا۔ الوتدَ: میخ گاڑنا۔ وَتَدَ الوتدُ: میخ گڑنا۔ الوتدَ: میخ گاڑنا۔ فی بیته: گھر میں اقامت کرنا۔ الزرعُ: نباتات کا پھوٹنا اور مضبوط ہونا۔ کہا جاتا ہے: وَتَدَ رِجلَهٗ فی الارض: اس نے اپنے قدم زمین پر جمالئے۔ اَوْتَدَ اِیتَادًا الوتدَ: میخ گاڑنا۔ الواتِد (فا): ثابت گڑا ہوا۔ قرنٌ واتِدٌ: مضبوط سینگ۔ وتدٌ واتدٌ: مضبوطی سے جما ہوا، گڑا ہوا یا لگا ہوا کیل۔ الوَتِد و الوَتْد جمع أَوْتَاد: کھونٹی، کان کے سامنے کا اٹھا ہوا حصہ۔ أوتادُ الارض: پہاڑ۔ أوتادُ البلاد: ملک کے روسا اور بڑے لوگ۔ أوتادُ الفم: دانت۔ الاوتادُ فی عرف المسلمین: تیسرے درجہ کے اولیاء جنہیں عُمُد بھی کہا جاتا ہے۔ جن میں سے ہر ایک کے ذمہ چار آسمانوں کا انتظام، دیکھ بھال سمجھی جاتی ہے ان کا مسکن آسمانوں کا مرکز بتایا جاتا ہے۔ الاوتاد الأربعة (فلک): منطقہ بروج کی بارہ منزلوں میں چار بڑی منزلیں جو یہ ہیں: الوتد الطالع (۲) الوتد الغائب (۳) وتد السماء (۴) وتد الارض۔ الوَتِد جمع أَوْتَاد: کھونٹی۔ عند اهل العروض: تین حروف جن میں سے دوسرا یا تیسرا ساکن ہو۔ اگر درمیان والا ساکن ہو جیسے قَولْ میں تو اسے الوتد المفروق کہا جاتا ہے اگر متحرک ہو اور آخری حرف ساکن ہو جیسے عَلَی میں تو یہ الوتد المجموع ہے۔ المِیتَد و المِیتَدَة: کھونٹی گاڑنے کی لکڑی یا لوہے کی موگری۔

وتّد ۵: میں کھونٹی، کیل، میخ، کھونٹا چوب، گاڑنا، مضبوطی سے ٹھوکنا، لگانا، کسنا، جکڑنا، مضبوطی سے باندھنا، چمٹانا، جمانا، محفوظ کرنا، بند کرنا، پکڑ رکھنا۔ وَتَد و وَتِد جمع أوتاد: کھونٹا، کھونٹی، کیل، میخ، چوب، پن، خیمہ کی پن، خیمہ کی کھونٹی، چوب، لاٹھی، لٹھ، کھمبا، قطب۔

وتر: ۱-وَتَرَ یَتِرُ وَتْرًا و تِرَةً القوسَ: کمان میں تانت لگانا۔ وَتَّرَ القوسَ: کمان کی تانت کسنا۔ أَوْتَرَ إِیتَارًا القوسَ: کمان کے لئے تانت بنانا یا کمان کی تانت کسنا۔ توتَّر العصبُ و نحوُهٗ: پٹھے وغیرہ کا سخت ہونا۔ تَوَتَّرتِ العلاقاتُ توتّراً: تعلقات کشیدہ ہونا۔ الوَتَر جمع أَوْتَار و وِتَار: وترة کی جمع، کمان کی تانت، سارنگی کا تار، نس، پٹھا، عضلہ، خط منحنی میں مستقیم کا قطعہ جو منحنی کے دو نقطوں کو باہم ملاتا ہے۔ قائم الزاویہ مثلث میں زاویہ قائم کے مقابل ضلع۔ وتر (chord) (ریاضی اور جومیٹری کی اصطلاح)۔ الوَتَرَة جمع وَتَر و وَتَرَات: لیمپ والا کھمبا، دو انگلیوں کے درمیان کی کھال، کان کے اوپر کے حصے کی نرم ہڈی، زبان کے نیچے کا پٹھا، کمان سے تیر نکلنے کی جگہ بلکو۔ تِیرَة: نتھنوں کے درمیان کی دیوار کان کے بالائی حصہ کی نرم ہڈی، دو انگلیوں کے درمیان کی کھال۔ لیمپ والا کھمبا

۲-وَتَرَ یَتِرُ وَتْرًا و تِرَةً فلانًا: پر ظلم کرنا یا تکلیف پہنچانا، گھبرا دینا۔ فلانا مالهٗ او حقّهٗ: کے مال یا حق کو کم کرنا۔ الوَتْر و الوِتْر جمع أَوْتَار: بدلہ لینا یا بدلہ لینے میں ظلم کرنا۔ الوَتِیرَة: انتقام یا انتقام میں ظلم۔ المَوْتُور (مفع): مقتول کا وارث جو بدلہ نہ لے سکے۔

۳-وَتَرَ یَتِرُ وَتْرًا و تِرَةً القومَ: کو علیحدہ کرنا، تنہا کرنا۔ وَاتَرَ وِتَارًا و مُوَاتَرَةً الأشیاءَ: کو وقفہ چھوڑ کر کرنا، پورا کرنا یا مکمل کرنا، انجام دینا۔ البندقیة المواتِرة: بندوق یا رائفل جسے ایک ہی بار بھر کر کئی فائر کئے جا سکیں۔ الکُتُبَ: خطوط پے در پے بھیجنا۔ الصومَ: ایک یا دو دن چھوڑ کر روزہ رکھنا۔ أَوْتَرَ إِیتَارًا الشیءَ: چیز کو وتر بنانا یعنی ایک بنانا۔ بین الاشیاء: کو ہر دو کے درمیان وقفہ چھوڑ کر جاری رکھنا۔ یہ وتر سے شروع کرنا یعنی طاق عدد سے شروع کرنا ہے۔ تَوَاتَرَتِ الأشیاءُ: چیزوں کا وقفہ کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ہونا۔ الوَتْر و الوِتْر جمع أَوْتَار: طاق (عدد)۔ الوَتِیرَة: وقفہ، ڈھالی، آہستگی، طریقہ، تاخیر، قید، قبر۔ تَتْرَی: (اس کی اصل وَتْرَی ہے): ایک کے بعد ایک یا ایک ایک کر کے آنا۔ جیسے ہے: ارسلنا رُسُلَنَا تَتْرَی: ہم نے اپنے رسول ایک کے بعد ایک یا ایک ایک کر کے بھیجے)۔

۴-الوَتَرَة جمع وَتَر و وَتَرَات: ہر چیز کا کنارا اور چکر، ہر چیز کا خالص حصہ، ناک کے بانسہ اور مونچھ کے درمیان کا حصہ۔ الوَتِیرَة: گھوڑے کی پیشانی کا گول سفید نشان، ہونٹ کا حلقہ، دائرہ جس پر نیزہ کا استعمال سیکھا جاتا ہے، سفید زمین، گلاب کا شگوفہ۔

وَتَرَ یَتِرُ وَتْرًا ۵: کمان کو تانت لگانا ۔۔۔ ۵: پر ظلم کرنا، کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، دھوکا دینا، جل دینا۔ وَتَّر ۵: رسی، تار (سارنگی وغیرہ کی تار) کو پھیلانا، کسنا، مضبوط کرنا، تنا ہوا کرنا۔ وَاتَر ۵: کو وقفہ وقفہ سے کرنا۔ أَوْتَر ۵: (کمان) کو تانت لگانا۔ تَوَتَّرَ: کشیدہ ہونا، پھیلا ہوا ہونا، تنا ہوا ہونا، کسا ہوا ہونا۔ توترت العلاقاتُ: تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ تَوَاتَرَ: لگاتار آنا ہونا، اپنے آپ کو دہرانا، بار بار ہونا۔ وَتْر اور وِتْر: طاق (عدد) اونچا نیچا، ناہموار۔ وِتْرًا: ایک ایک کر کے، علیحدہ علیحدہ، فرداً فرداً۔ وَتْرِی:

ناہموار، طاق (عدد) ضَرَبَ علی الوَتَرِ الحسّاس: کسی حساس جگہ کے متعلق کچھ کہنا، کسی معاملہ کی تہہ کو پہنچنا وَتَر صَوتِی: صوتی وتر (گلے کا آواز پیدا کرنے والا حصہ) وَتَرِی: تار والا، تار کا وَتِیرۃ: انداز، اسلوب، طریقہ، وضع، طور، طریق کار، طرز، طریق، سَرعلی هذه الوَتِیرَۃ: اس طرح علی وَتِیرَۃٍ واحِدَۃٍ اسی طرح، یکساں طور پر، ہم آہنگی سے تَتَرَی: ایک دوسرے کے بعد، ایک ایک کر کے، یکے بعد دیگرے، پے در پے تَوَتُّر: کھچاؤ، کشیدگی، کشاکش، تناؤ، حد سے زیادہ بوجھ، حد سے زیادہ کوشش کا نقصان توتر الاعصاب: اضطراب، گھبراہٹ، اعصابی تناؤ توتّر سیاسی: سیاسی تناؤ، کشیدگی تَواتُر: تسلسل، تواتر، سلسلہ، تانتا، اعادہ، تکرار، بار بار واقع ہونا، بار بار پیش آنے والا واقعہ، استحکام، استقلال، ثابت قدمی، قرار، استمرار، دوام، ہمیشگی علی تواتُرٍ پے در پے، لگاتار، یکے بعد دیگرے، ایک دوسرے کے بعد مُتَوَتِّر: پھیلا ہوا، کشیدہ، تنا ہوا، کشاکش کی حالت میں، سخت، بے لوچ، بے گنجائش، کسا ہوا مُتَواتِر: لگاتار، مسلسل، پے در پے

وتش: الوتش: ہر تھوڑی چیز، رذیل لوگ۔

وتغ: اوَتِغَ یَوتَغُ وَتَغًا: گنہگار ہونا، دین و دنیا میں ہلاک و تباہ ہونا، دردمند ہونا اَوتَغَ اِیتاغاً ہُ: کو ہلاک کرنا، قید میں ڈالنا، مصیبت میں ڈالنا، ایذا دینا۔ ـــ ہ عند السلطان: کو حاکم کے پاس مضر باتوں کی تلقین کرنا۔ کہا جاتا ہے اَوتَغَ دینَہُ بالاِثم: گناہ سے دین خراب کرنا المَوتَغَۃ: ہلاکت۔

٢ وَتِغَ یَوتَغُ وَتَغًا: گفتگو میں نا سمجھی کرنا، بدخلق ہونا، بری بات کہنا اور بہت جاہل ہونا، ملامت زدہ ہونا ـــ فی حجتہ: حجت میں غلطی کرنا الوَتِیغَۃ: دلیل کی غلطی۔

وتن: وَتَنَ یَتِنُ وُتُوناً و تِنَۃً الماءُ: پانی کا ہمیشہ بہنا اور نہ رکنا ـــ بالمکان: کسی جگہ جم کر اقامت کرنا۔ ـــ وَتْناً و وَتِیناً الرجُلَ: کی شہ رگ پر مارنا۔ ـ وَتِنَ: کی شہ رگ کا دکھنا واتَنَ مُواتَنَۃً ہُ: سے چمٹنا، اس کی طرح کرنا ـــ المکانَ: کسی جگہ میں طویل اقامت کرنا الواتِن (فا) جمع وُتَّن: کسی جگہ جم کر ہمیشہ رہنے والا، مسلسل بہنے والا پانی۔ الوَتَنَۃ: مقروض کا پیچھا کرنا الوَتِین (مص) جمع وُتُن و اَوتِنَۃ (ع ا): دل کی رگ جس سے تمام رگوں میں خون جاتا ہے۔ ٢ اِستَوتَنَ المالُ: مویشی کا موٹا ہونا۔ ٣ المُوتَنَۃ: مخالفت۔

وتین جمع وُتُن و اَوتِنَۃ: رگ جاں، شہ رگ۔

وثأ: وَثَأَ یَثَأُ اللحمَ: گوشت کو مردہ کرنا (صدمہ وغیرہ کا) ـــ الوتد: کھونٹی کے سر کو ضربوں سے چوڑا کرنا۔ ـ وَ اَوثَأَ یدَہُ: کے ہاتھ میں موچ ڈالنا وَثِئَ یَوثَأُ وَثْأً و وَثَأً و وُثُوءًا و وُثِئَت یدُہُ: ہاتھ میں موچ آنا صفت: وَثِئَۃ و مَوثُوءَۃ و وَثِیئَۃ۔ وَثُؤَ یَوثُؤُ وَثاءَۃً: کو موچ آنا الوثاءَۃُ والوَثْءُ: موچ الوَثِیء: ٹوٹے ہوئے ہاتھ والا المِیثَأَۃ: میخ ٹھوکنے کا آلہ۔

واتاہ: (خوشگوار چیز کا) کے پاس آنا، خوشگوار چیز کو اتفاقاً پانا، کے ساتھ خوشگوار چیز کا واقع ہونا، کے ساتھ بااخلاق ہونا، بامروت مدد کرنے والا ہونا، پر مہربان ہونا، کے لئے مبارک، سعود یا نیک شگون والا ہونا، مناسب ہونا، موزوں ہونا، کو رام ہونا، کے لئے کامیابی ہونا، کو زیب دینا، سجنا، پھبنا، کو (خوراک کا) موافق آنا، راس آنا مُواتٍ: خوشگوار، پسند کرنے والا، خوش اطوار مہربان، خوشی کا، خوشی والا، دل کش، دل خوش کن، پسندیدہ، موافق، مناسب حال، مبارک، مسعود، نیک شگون والا۔

وَثَأَ یَثَأُ وَثْأً (ہ): (بازو، ٹانگیں) کو رگڑ پہنچانا، زخمی کرنا، پر گجی مار مارنا، مروڑ کر موچ ڈالنا وَثِئَ یَثَأُ وَثاءً او وُثُوءًا او وُثْأً: رگڑ کھانا، زخمی ہونا، (میں) موچ آنا، موچ زدہ ہونا الوَثْأ بمعنی وَثَأ وَثْء وَثاءَۃ: گجی مار، گپت مار، رگڑ، خراش، موچ۔

وثب: اوَثَبَ یَثِبُ وَثْبًا و وُثُوبًا و وَثَبانًا و وِثابًا و وَثِیبًا و ثِبَۃً: اٹھنا، کھڑا ہونا، کودنا، پھاندنا وَثَبَ اِلی الشرف وَثْبًا: وہ شرف و منزلت تک ایک دم جا پہنچا واثَبَ مُواثَبَۃً ہُ: پر جلدی سے ٹوٹ پڑنا۔ اَوثَبَ اِیثابًا ہُ: کو کدانا اَوثَبَ ہُ الموضعَ: کو کسی جگہ سے کدانا تَوَثَّبَ علیہ فی اَرضِہ: کی زمین پر ظلم سے قابض ہو جانا تَواثَبَ القومُ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا الوَثّاب: بہت کودنے والا۔ (طب): سردی اور گرمی کی شدت وغیرہ سے پیٹھ کے عضلات کے سوجنے، تشنج اور سر درد کی بیماری۔ عام لوگ اسے وَتّاب (ت سے) کہتے ہیں فرسٌ وَثّابَۃٌ: تیز رفتار گھوڑی الوَثَبَی: بہت کودنے والی۔ کہا جاتا ہے فرسٌ او ناقۃٌ وَثَبَی: بہت کودنے والی گھوڑی یا اونٹنی المِیثَب: کودنے والا، بلند زمین، ندی۔

٢ وَثَّبَ تَوثِیبًا ہُ: کو تکیہ پر بٹھانا، گدی پر بٹھانا ـــ ہُ الوِسادَۃَ: کے بیٹھنے کے لئے گدی بچھانا ـــ ہُ وِثابًا: کے لئے بستر وغیرہ بچھانا الوِثاب: تخت، پلنگ، بستر، بیٹھنے کی جگہ المَوثَبان: امن پسند بادشاہ۔ المِیثَب: بیٹھنے والا، نرم زمین۔

وَثَبَ یَثِبُ وَثْبًا و وُثُوبًا و وَثِیبًا و وَثَبانًا: کودنا، اچھلنا، چھلانگیں لگاتے ہوئے جانا، ایک پاؤں پر کودنا، پھدکنا، کلیلیں کرنا، بھاؤ یکایک چڑھنا، چونک اٹھنا، بدکنا، بھڑکنا ـ اِلی: کی طرف اٹھ دوڑنا، تیزی سے جانا ـــ علی: پر جھپٹا مارنا، ٹوٹ پڑنا، حملہ کرنا۔ وَثَّبَ و اَوثَبَ ہ/ ہ: کو کدانا، اچھالنا ـــ ہ: کو اچھالنا واثَبَ ہ: پر جھپٹا مارنا، ٹوٹ پڑنا، حملہ کرنا۔ تَوَثَّبَ: یکایک چڑھنا، چونک اٹھنا، بدکنا، کی طرف تیزی سے جانا، پھدکنا، کلیلیں کرنا، کودنا، چھلانگیں لگانا، اچھلنا ـ اِلی: کی جگہ وغیرہ شوق و سرگرمی سے جانا، کو ہمت سے کرنا ـــ علی/فی: پر جھپٹا مارنا، ٹوٹ پڑنا ـ: بیدار ہونا، اٹھنا، چڑھنا تَواثَبَ: کودنا، اچھلنا، چھلانگ لگانا، تیز (رفتار) ہونا، سانس کا جلد پھول جانا وَثْبٌ بالزانۃ: لاٹھی کے ساتھ جست وَثْبٌ طویل: چوڑی جست وَثْبٌ عالٍ: اونچی جست تَخَطَّی وَثْبًا من فوق: ٹی پھاندنا وَثْبَۃ جمع وَثَبات: جست، اچھل، کود، حملہ، دلیرانہ مہم چڑھائی، انتباہ وَثْبَۃ احساسیۃ: اضطراری تحریک وَثّاب: اچھل کود کا عادی، زقند بھرنے والا، لاف زن، گرم، تیز، پرشوق، سرگرم جوشیلا، تیز مزاج، تندرو، دلیر، من چلا، باہمت، مہم جو، بہادر، جری مُواثَبَۃ: گواہوں کی موجودگی میں مطالبہ کا فوری پرزور اظہار (اسلامی قانون) مُتَوَثِّب: بیدار، توانا، طاقت ور، باہمت، سرگرم، چاق چوبند، زوردار، جاندار۔

وثج: وَثُجَ یَوثُجُ وَثاجَۃً: گاڑھا ہونا ـــ الفرسُ: گھوڑے کا موٹا ہونا ـــ المکانُ: کسی جگہ کا بہت گھاس والی ہونا۔ صفت: وَثِیج اَوثَجَ اِیثاجاً ہُ: کو زیادہ کرنا اِستَوثَجَ المالُ: مال کا بہت ہونا ـــ من المال: مال زیادہ لینا ـــ الفرسُ: گھوڑے کا موٹا ہونا، گٹھے بدن والا ہونا ـــ النبتُ: نباتات کا گھنا اور گنجان ہونا الوَثِیج: گاڑھا، گٹھے بدن کا ثوبٌ وَثِیجٌ: گف بنا ہوا کپڑا الوَثِیجَۃ: بہت درختوں والی زمین، گنجان درختوں والی زمین لوضٌ مُوثِجَۃ و مُتَّثِجَۃ: بہت گھاس والی زمین۔ المَوثُوج من الثیاب: نرم بناوٹ کا کپڑا۔

وثخ: الوَثخَۃ: پانی کی تری الوَثِیخَۃ: گاڑھا دودھ،

چربی دار نرم ہڈی، سرسبز گنجان گھاس، کیچڑ والی زمین۔
رجُلٌ مُوَثَّخُ الخلق و مُوَثُوخُه: کمزور جسم والا
مرد۔

وثر: وَثَرَ يَثِرُ وَثْراً و وَثَّرَ الفراشَ: بستر کو نرم و ملائم
کرنا۔ وَثُرَ يَوْثُرُ وَثَارَةً الفراشُ: بستر کا نرم و ملائم
ہونا۔ صفت وَثِيرٌ ۔ الرجُلُ: آدمی کا موٹا ہونا۔
۔ لَحْمُهُ: کا پر گوشت ہونا۔ اِسْتَوْثَرَ الفراشَ:
بستر کو نرم و ملائم پانا۔ ۔ من المال: مال بہت مانگنا،
لینا۔ الواثِر (فا): ثابت قدم۔ الوَثْر (مص):
تسمہ کی طرح لمبائی میں کاٹا ہوا چمڑا، صدری کے مانند
چمڑے کا لباس۔ الوِثْر: سب کپڑوں سے اوپر رہنے
والا کپڑا، نرم، گھوڑے کی زین پر ڈالنے کا گدیلا۔
الوَثِر: نرم و ملائم۔ الوَثِير: نرم و ملائم، بمعنی وِثْر۔
الوَثِيرة جمع وَثَائِر و وِثَار: وثیر کا مؤنث۔ پر
گوشت، بہت گوشت والی۔ الوِثَار: نرم بچھونا۔
الوَثَارَة و الوِثَارَة: بستر یا فرش کی نرمی وَثُرَ کے دو
اسم (نرمی، ملائمت)۔ المِيثَرَة جمع مَوَاثِر و
مَيَاثِر: گھوڑے کی زین پر ڈالنے کا گدیلا۔ المَوَاثِر
و المَيَاثِر: ریشم و دیباج کے جھول، زین پوش، درندوں
کی کھالیں۔

◯ وَثْر و وَثِير: نرم، آرام دہ، گرم (بستر، نشست)
صاف، ہموار (کپڑا)۔ وِثَار: نرم بستر۔ مِيثَرة
جمع مَوَاثِر و مَيَاثِر: کاٹھی کا کپڑا، زین کا کپڑا،
زین پوش کمبل۔

وثغ: وَثَغَ يَثِغُ وَثْغاً رأسَهُ: کا سر توڑنا۔ کچلا۔ الوَثْغة
من المطر: تھوڑی بارش۔ الوَثِيغة: موسم بہار کی
گنجان گھاس۔ ۔ من المطر: تھوڑی بارش۔

وثف: وَثَفَ يَثِفُ وَثْفاً و وَثَّفَ و أَوْثَفَ القِدرَ:
ہانڈی کے لئے چولہا بنانا۔

وثق: وَثِقَ يَثِقُ ثِقَةً و وُثُوقاً و مَوْثِقاً بفلان: کا اعتبار
کرنا، پر بھروسہ کرنا۔ صفت فاعلی وَاثِق۔ صفت
مفعولی مَوْثُوقٌ بِه۔ وَثُقَ يَوْثُقُ وَثَاقَةً الرجُلُ:
اپنے معاملہ سے اعتماد سے آگے بڑھنا، کاروائی کرنا۔
۔ الشيءُ: قوی ہونا، مستحکم ہونا۔ وَثَّقَ الرجُلَ: کو
معتبر کہنا، معتبر جاننا۔ ۔ الأمرَ: کو پختہ کرنا۔ وَاثَقَ
وِثاقاً و مُوَاثَقَةً هُ: سے معاہدہ کرنا۔ أَوْثَقَ إيثاقاً هُ:
کو رسی سے باندھنا۔ تَوَثَّقَ: مستحکم و قوی ہونا۔ ۔ في
الأمر: میں اعتماد سے آگے بڑھنا، کاروائی کرنا۔ تَوَاثَقَ
القومُ: باہم عہد و پیمان کرنا۔ اِسْتَوْثَقَ منه: سے
وثیقہ لینا۔ ۔ من الأموال: مال کی حفاظت میں سختی
کرنا۔ الثِّقَة (مص): قابل اعتماد، قابل بھروسہ

(واحد جمع مذکر و مؤنث میں یکساں) بعض اوقات جمع
کا صیغہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جو مذکر و مؤنث کے
لئے ثقات ہے۔ کہا جاتا ہے فلانٌ أخو ثِقَةٍ: فلاں
بہادر ہے۔ الوَثَاق و الوِثَاق جمع وُثُق: باندھنے
کی چیز، رسی، بیڑی وغیرہ۔ الوثاقِيَة (ن): ایک
درخت جس کو آرائش اور باڑھ کے لئے اگایا جاتا ہے،
اس کے سفید پھول گچھوں کی صورت میں لٹکتے ہیں۔
الوَثِيق جمع وِثَاق: مضبوط۔ الوثيقة: قابل
اعتماد (چیز وغیرہ)، وثیق کا مؤنث، کام کی مضبوطی۔
ارضٌ وَثِيقَةٌ: بہت گھاس والی زمین۔ الأَوْثَق
مؤنث وُثْقَى: اسم تفضیل، زیادہ مضبوط، زیادہ مستحکم،
زیادہ قوی۔ کہا جاتا ہے اِسْتَمْسَكَ بالعروة الوُثْقَى:
وہ ایک مضبوط رشتہ سے وابستہ رہا۔ خُذِ الأمرَ بالأوثق:
معاملہ کو انتہائی مضبوط طریقے سے لے۔ المَوْثِق و
المِيثَاق جمع مَوَاثِق و مَيَاثِق و مَوَاثِيق و
مَيَاثِيق: عہد۔

◯ وَثَقَ يثق ثِقَةً و وثوقاً ب: پر اعتماد کرنا، یقین کرنا،
بھروسہ کرنا، انحصار کرنا، اعتبار کرنا، یقین کرنا۔ ۔ من
أن: یقین کرنا کہ۔ ۔ ب: پر اعتماد یا یقین ہونا۔ ۔
من أن: یقین رکھنا کہ۔ يُوثَقُ به: بھروسہ کے قابل،
قابل اعتبار، لائق اعتماد، معتبر۔ وثق من النفس:
خود اعتمادی رکھنا۔ وَثُقَ يَوْثُقُ و ثَاقَةً: مضبوط ہونا،
ٹھوس ہونا، قوی ہونا۔ ۔ من: کا یقین رکھنے والا ہونا،
کے بارے میں غیر متذبذب ہونا، شک نہ رکھنا، پر
یقین ہونا۔ وَثَّقَ ه: کو مضبوط کرنا، ٹھوس کرنا یا بنانا،
پختہ کرنا، مستحکم کرنا، استوار کرنا، جمانا؛ کی سند میں پیش
کرنا، کا دستاویزی ثبوت مہیا کرنا، کی تصدیق کرنا،
احقاق حق کرنا، توثیق کرنا، پر وثیقہ تیار کرنا۔ ۔ بین
و بین: کو سے جوڑنا، کو سے منسلک کرنا۔ وَاثَقَ ه:
سے معاہدہ کرنا۔ وَاثَقَ نفسَهُ على: کا عزم صمیم
کرنا، کو کرنے پر پورا مائل ہونا۔ أَوْثَقَ ه ب: کو سے
باندھنا، کو سے بیڑیاں ڈالنا۔ تَوَثَّقَ: مضبوط ہونا،
مستحکم ہونا، مضبوطی سے قائم ہونا، مستقل بنیادوں پر
استوار ہونا۔ ۔ في: میں اعتماد سے آگے بڑھنا،
کارروائی کرنا۔ اِسْتَوْثَقَ مِن: کے بارے میں اپنی
تسلی کرنا، کا پورا بندوبست کرنا، کے بارے میں یقین
حاصل کرنا، کی جانچ پڑتال کرنا، کا جائزہ لینا، کی
تصدیق کرنا۔ ۔ ه: پر اعتماد ہونا، بھروسہ ہونا، پر اعتماد
کرنا، یقین کرنا۔ ثِقَة: بھروسہ، اعتماد، اعتبار، حسن
ظن، راز کی بات، یقین، ایمان۔ على ثقة من: پر کامل
بھروسہ، اعتماد، اعتبار کرتے ہوئے، کے بارے میں

حسن ظن رکھتے ہوئے، پر اعتماد یا یقین رکھنے والا، کے
بارے میں پر یقین، کے بارے میں غیر متذبذب،
شک نہ رکھنے والا۔ هو على ثقة من أنَّهُ: اسے
یقین ہے کہ وہ۔ ثقة بالنصر: فتح کا یقین۔ ثقةٌ
بنفسه یا ثقةٌ بالنفس: خود اعتمادی۔ أخو ثقةٍ:
قابل اعتبار، لائق اعتماد، بھروسے کا۔ عدمُ الثقة:
عدم اعتماد، بے اعتمادی، شک و شبہ۔ طلب عدم الثقة:
تحریک عدم اعتماد (پارلیمنٹری)۔ ثِقَة جمع ثِقات:
بھروسہ کا، قابل اعتماد، لائق اعتبار، معتبر (شخص)
اطلاع دینے والا، بتانے والا، خبر دینے والا، معتبر
ماخذ، منبع، سرچشمہ یا حاکم (جمع حکام) ارباب اختیار،
بااختیار لوگ۔ ثقةٌ عسكرية: فوجی ماہر۔ وَثاق و
وِثاق جمع وُثُق: رسی یا گانٹھ، زنجیر، کڑی، بندھن،
بند، بیڑی، قید، ہتھکڑی (مجازاً بھی استعمال ہوتا
ہے)۔ شَدَّ وِثاقَهُ: کو باندھ لینا، کو بیڑیاں یا ہتھکڑی
پہنانا۔ وَثاقة: مضبوطی، استحکام، قوت، طاقت، استواری۔
وَثِيق جمع وِثاق: مضبوط، قوی، ٹھوس، محفوظ، قابل
اعتماد، لائق اعتبار۔ وَثِيقَة جمع وَثائِق: دستاویز،
کاغذ، ریکارڈ، ووچر، سرٹیفکیٹ، رسید، پالیسی، ڈپلومیٹک
نوٹ، نوشتہ، لکھی ہوئی چیز۔ الوثيقة العُظْمَى:
میگنا کارٹا (انسانی حقوق اور آزادی کا منشور جو جان
نے ۱۹۱۵ء میں جاری کیا)۔ وَثِيقة التفويض:
پیروی مقدمہ کی تحریری اجازت (warrant of
attorney)۔ أَوْثَق مؤنث وُثْقَى: زیادہ مضبوط،
زیادہ قوی۔ مَوْثِق جمع مَوَاثِق: معاہدہ، ٹھیکہ، عہد
و پیمان، قول و قرار، اقرار نامہ، میثاق بنی اسرائیل جو
اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، صلح نامہ، عہد نامہ۔ مِيثاق
جمع مَوَاثِيق: میثاق بنی اسرائیل، معاہدہ، ٹھیکہ، عہد
نامہ، صلح نامہ، اقرار نامہ، عہد و پیمان، قول و قرار، رشتہ
داری، فرمان، پروانہ، منشور۔ ميثاق هيئة الأمم
المتحدة: اقوام متحدہ کا منشور۔ ميثاق عدم
الاعتداء: عدم جارحیت کا معاہدہ۔ توثيق
الديون: قرضوں کا ادغام۔ تَوْثِقَة: ضمانت،
کفالت، ضمانت نامہ، کفالت نامہ۔ واثِق: بھروسہ
کرنے والا، اعتماد کرنے والا، اعتبار کرنے والا، پر
یقین۔ موثوق به: قابل اعتماد، لائق اعتبار۔
مصدر موثوق به: ایک قابل اعتماد ذریعہ سے۔
مُوَثِّق جمع مُوَثِّقُون: وثیقہ نویس، ناظر رجسٹری
(notary public)۔

وثل: وَثَّلَ المالَ: مال جمع کرنا۔ الشيء: چیز کو مضبوط
کرنا۔ الوَثَل: کھجور کے ریشوں کی رسی، چمڑے کا

میل کچیلی الوَثِیل: کھجور کا ریشہ، کھجور کے ریشوں یا سن کی ایک قسم کی رسی۔

○ وَثَل و وثِیل: کھجور کے ریشوں کی رسی، میلا کی رسی، سن کے ریشہ کی رسی۔

وثم: وَثَمَ یَثِمُ وَثْماً الشیءَ: چیز کو توڑنا، کوٹنا ـــ المطرُ الارضَ: بارش کا زمین پر زور سے برسنا ـــ الفرسُ الارضَ: گھوڑے کا زمین پر کھر مارنا ـــ وَثْماً و وِثَاماً ت الحجارةُ رجلهُ: پتھر کا پاؤں کو خون آلود کرنا۔ وَثِمَ یَوْثَمُ وَثَماً المکانُ: جگہ کا کم گھاس یا نباتات والی ہونا۔ وَثُمَ یَوْثُمُ وَثَامَةً: پر گوشت اور گٹھیلے بدن کا ہونا صفت: وَثِیم۔ واثَمَ مُواثَمَةً فی العَدْوِ: دوڑنا، آگے بڑھنا۔ الوَثَم: کمی، قلت۔ الوَثِیمَة: پتھر، چقماق کا پتھر، گھاس یا نباتات کا: تیہ۔ خُفٌّ مِیثَمٌ: بہت پامال کرنے والا کھر۔

وثن: وَثَنَ یَثِنُ وُثُوناً: عہد پر جمے رہنا، قائم رہنا۔ اَوْثَنَ اِیثاناً هُ: کو بہت بخشش دینا ـــ من المال: بہت مال لینا۔ اِسْتَوْثَنَ اِسْتِیثاناً الشیءُ: باقی رہنا، مضبوط ہونا ـــ ت الابلُ: اونٹوں کے بچوں کا ان کے ساتھ پروان چڑھنا ـــ المالُ: مویشی کا موٹا ہونا ـــ من المال: بہت مال لینا۔ الواثِن (فا) جمع وُثَّن: قائم وثابت۔ الوَثَن جمع اَوْثان و وُثْن و وُثُن و اُثُن: بت۔ الوَثَنی: بت پرست۔

○ وَثَنی: بت پرست، مظاہر پرست، تاریک خیال آدمی، غیر اہل کتاب، مشرک، کافر، بت پرستی سے متعلق، بت پرستانہ، مظاہر پرستی سے متعلق۔ وَثَنِیَة: بت پرستی، مظاہر پرستی، تاریک خیالی۔

وثی: وُثِیَ یُوْثَی وَثْیاً ت یدُهُ: کے ہاتھ میں موچ آجانا صفت: مَوْثِیَّة۔ اُوْثِیَ اِیثاءً ا الرجلُ: ٹوٹی ہوئی کشتی یا زخمی سواری (جانور) والا ہونا۔ الوَثْیُ: موچ۔ الوُثَی: دردیں، تکلیفیں۔ المِیثاءَة: موگری، ہتھوڑا۔

وج: وَجَّ یَوُجُّ وَجّاً: جلدی کرنا۔ الوَجّ (مص): جلدی (ح) شتر مرغ (ح) بھٹ تیتر۔

۲۔الوَجّ: جوئے کی لکڑی (ك)۔ ایک دوا جو پودوں کی جڑوں سے بنائی جاتی ہے۔ عام لوگ اسے بھوک کی جلن کے معنی میں لیتے ہیں۔

وجا: اَوْجَأَ یَوْجَأُ وَجْأً و تَوَجَّأَ فلاناً بالسکین او بیده: کو چھری یا ہاتھ سے مارنا۔ صفت مفعولی مَوْجُوءٌ و وَجِیءٌ۔ اسم: الوِجاء۔ ـ التمرَ: کھجور کو کوٹنا۔ اَوْجَأَ فلاناً عنه: کو سے دور کرنا، ہٹانا۔ الوَجِیئَة: کوٹ کر تیل یا گھی میں ملا کر کھائی جانے والی کھجور یا ٹڈی۔

۲۔وَجَأَ تَوْجِیئاً البئرَ: کنوئیں کو اندھا پانا یعنی اسمیں پانی آنا بند ہو گیا ہو۔ اَوْجَأَت البئرُ: کنویں کا پانی منقطع ہو جانا ـــ الرجلُ: ناکام ہونا۔ الوَجْءُ و الوَجَأ و الوِجاء: اندھے کنوئیں کی طرح بے فائدہ چیز۔

۳۔اِتَّجَأَ التمرُ: کھجور کا گودے دار ہونا۔

۴۔الوَجِینَة: (ح) گائے۔

وجب: ا۔وَجَبَ یَجِبُ وُجُوباً و جِبَةً الشیءُ: ثابت ولازم ہونا۔ کہا جاتا ہے: وَجَبَ البیعُ و وَجَبَ لی علی فلان کذا: خرید وفروخت لازم ہو گئی، میری اتنی رقم فلاں شخص پر واجب الادا ہو گئی ـــ وَجْبَةً الرجلُ: دن میں ایک کھانا کھانا ـــ الحائطُ ونحوُهُ: دیوار وغیرہ کا زمین پر گر جانا ـــ وَجْباً و وُجُوباً الرجلُ: گر کر مر جانا۔ کہا جاتا ہے: ضربهُ فوَجَبَ: (اس نے اسے مارا تو وہ گر کر مر گیا)۔ ـ ت الشمسُ: سورج کا ڈوبنا، غروب ہونا ـــ ت العینُ: آنکھ کا گڑھے میں بیٹھنا، دھنسنا ـــ وَجْباً و وَجِیباً و وَجَبَاناً القلبُ: دل دھڑکنا۔ وَجُبَ یَوْجُبُ وجُوبَةً: بزدل ہونا۔ وَجَّبَ: دن میں ایک کھانا کھانا۔ وَجَّبَ نفسَهُ: و لنفسهٖ دن میں ایک کھانا کھانا ـــ الامرَ علیه: کو پر لازم کرنا ـــ الناقةَ: دن رات میں اونٹنی کو صرف ایک بار دوہنا ـــ الضیفَ: مہمان کے حق ضیافت کو ادا کرنا، مہمان کی عزت کرنا (عام زبان میں) ـــ بهِ الارضَ: کو زمین پر گرانا ـــ تِ الاَبِلُ: اونٹوں کا تھکنا ـــ البعیرُ: اونٹ کا بیٹھنا ـــ اللبأُ فی ضرع الناقة: کھیس کا اونٹنی کے تھن میں جم جانا۔ واجَبَ وِجاباً و مُواجَبَةً هُ: کو لازم کرنا۔ اَوْجَبَ اِیجاباً لفلان حَقَّهُ: کے حق کی نگہبانی کرنا۔ کہا جاتا ہے: قد فعلتُ ذلك ایجاباً لحقهٖ: (میں نے یہ اس کے حق کی خاطر کیا) ـــ الشیءَ: کو واجب جاننا یا واجب کرنا۔ ـ البیعَ: خرید وفروخت لازم کرنا ـــ الرجلُ: ایسا کام کرنا جس سے وہ دوزخ یا جنت کا سزاوار ہو جائے ـــ الرجلُ: دن میں ایک کھانا کھانا ـــ اللهُ قلبَهُ: کے دل کو دھڑکانا۔ تَوَجَّبَ: دن میں ایک کھانا کھانا۔ تَواجَبَ القومُ: باہم شرط باندھنا۔ اِسْتَوْجَبَ اِسْتِیجاباً الشیءَ: کا حق دار ہونا، کو واجب اور لازم سمجھنا۔ الواجِب (فا): لازم (جائز، ممکن و ممنوع کے مقابل کبھی کبھی واجب کہا جاتا ہے) مقتول۔ واجِبُ الوُجود: ضروری ہستی، اپنی ذات میں موجود یا قائم بالذات (خدا)۔ الوَجْب (مص) و الوَجّابَة: بزدل۔ الوَجْب: گھوڑ دوڑ کی شرط۔ الوَجْبَة (مص) جمع وَجَبات: دھماکے کے ساتھ گرنے یا گرنے والے کی آواز، دن میں ایک بار کا کھانا ـــ عند العامة: کسی چیز کا سیٹ جیسے چمچوں کا سیٹ۔ وَجْبَةُ الاسنان: مصنوعی دانت۔ الوَجّاب: بزدل۔ قلبٌ وَجّاب: بہت دھڑکنے والا دل۔ الوُجُوب: کپڑا، ذات کے تقاضے کی ضرورت اور خارج میں اس کا حصول۔ الوَجِیبَة: وظیفہ، بیع کو واجب کرنا۔ المُوجِب (فا): باعث، سبب۔ المُوجِبَة: بڑی نیکی یا بڑا گناہ جس سے کرنے والا جنت یا دوزخ کا حق دار ہو جائے۔ المَوْجِب جمع مَواجِب: موت۔ کہا جاتا ہے: خرج القوم الی مَواجِبِهم: لوگ اپنی موت کی طرف نکلے۔ المُوجَب (مفع) من الکلام: وہ کلام جس میں نہ نفی ہو نہ نہی نہ استفہام۔

۲۔وَجَبَ یَجِبُ وَجْباً و وُجُوباً فلاناً عنه: کو سے ہٹانا، باز رکھنا۔

۳۔الوَجْب جمع وِجاب: چمڑے کی بڑی مشک۔

○ وَجَبَ یَجِبُ وُجُوباً: ضروری ہونا، ناگزیر ہونا، لازمی ہونا، لازم ہونا، واجب ہونا، اٹل، واجبی یا لابدی ہونا ـــ علی: پر واجب ہونا، لازم ہونا، کے ذمہ ہونا، پر عائد ہونا، کے گلے منڈھے ہوئے ہونا، موکد ہونا، حکم کیا گیا ہونا، کا فرض ہونا۔ وجب علیه اَن: اس کا فرض ہے کہ، اسکو ایسا کرنا ہے، اسکو ایسا کرنا ہوگا۔ کما یجب: جیسا کہ ہونا چاہئے، جیسا کہ لازمی ہے ـــ وجیباً و وَجَباناً: (دل کا) دھڑکنا۔ وَجَّبَ ہ علی: کو کا فرض بنانا، کو پر ناگزیر یا لازمی کرنا، کو پر عائد کرنا، کو کے گلے منڈھنا، کو کے ذمے لگانا ـــ علی ہ: کو پر مجبور کرنا، کو کا پابند کرنا۔ اَوْجَبَ ہ علی: کو کا فرض بنانا، کو پر ناگزیر کرنا، کو پر عائد کرنا، کو کا حکم دینا، کو کی تاکید کرنا، کو کے لئے ضروری بنانا، لازمی یا لازم بنانا ـــ علی ہ: کو پر مجبور کرنا، کو کا پابند کرنا ـــ ہ ل: کا کے قطعی وثوق سے فیصلہ کرنا، کو کوئی چیز انعام دینا، کو کوئی چیز دینا۔ اِسْتَوْجَبَ ہ: کا مستحق ہونا، حق دار ہونا، سزاوار ہونا، مستوجب ہونا، کا دعویدار ہونا ـــ ہ: کو ضروری یا لازمی سمجھنا۔ عملٌ یستوجب الشکر: شکریہ کا مستحق کام، قابل تعریف، قابل انعام، مستحسن یا پسندیدہ کام۔ وَجْبَة جمع وَجَبات: کھانا، خوراک، ناشتہ، صبح شام کا کھانا، فہرست طعام (شام میں)۔ وجبة

الطعام: کھانا، خوراک، صبح شام کا کھانا۔ وجبة ناشفة: خشک راشن، ہنگامی راشن۔ ایجابا ل: کی تعمیل میں، کے مطابق، کی پیروی میں۔ مَحَلُّ الإیجاب: صاحب اختیار حاکم۔ مَراجِع الایجاب: مجاز حکام۔ رَدَّ (یا أجابَ) بالایجاب: ہاں کہنا، ہاں میں جواب دینا۔ إیجابی: مثبت، ایجابی، قطعی، صریح، عملی (دفاع)۔ إیجابِیَة: فلسفہ وجوبیت (جس میں صرف ان چیزوں کو مانا جاتا ہے، جن کا وجود مشاہدہ میں آسکے اور اس کا عینی ثبوت ہو)۔ واجِب: ضروری، ناگزیر، لازمی، اٹل، مبرم، عین فطرت کے مطابق، جس سے مفر نہ ہو، لازم، واجب، ادائے فرض کا، اخلاقاً اور قانوناً لازم، مناسب، کافی، اچھا خاصا جمع واجِبات و وَجائب فرض، ذمہ داری، ضرورت، کام، تفویض۔ واجِبٌ علیك: یہ تمہارا فرض ہے۔ یَرَی من واجبه: وہ اسے اپنا فرض سمجھتا ہے۔ بالواجب: لازمی طور پر، فرض شناسی سے، حسب ضابطہ، حسب دستور، کما حقہ، جیسا چاہئے، پابندی سے، ٹھیک وقت پر، واجبی طور پر، انصاف کی رو سے۔ واجبُ العرض: درخواست وغیرہ پیش کرنے کے لئے موزوں۔ واجبات منزلیة: گھر پر کرنے کا کام، ہوم ورک۔ مُوجُوب: اخلاقی فرض، ہدایت، فرمان، حکم، ارشاد، قانون۔ مُوجِب: مجبور کرنے والا، پابند کرنے والا، ضروری بنانے والا، لازمی کرنے والا، متقاضی، مائل کن، ترغیب دینے والا، محرک، باعث جمع مُوجِبات: سبب، باعث، وجہ، محرک، ضرورت، ہنگامی صورت حال، سلیقہ، تہذیب، ادب آداب یا آداب مجلس کا معاملہ، رسم ورواج کی پابندی، ضابطہ کی کارروائی۔ عَلَی موجِبِ یا بموجب: کے مطابق، کی بنا پر، کی وجہ سے، کے باعث، کی سند سے، بسند۔ لا مُوجِبَ لِ: اس کی کوئی وجہ نہیں۔ مُوجِبَة: سبب، وجہ، محرک، ایسا کام جو ناگزیر عواقب کا نتیجہ ہے۔ مُوجَب: ضروری، لازمی، لازم، اثر، نتیجہ، اثباتی (گرامر)، مثبت، اثباتی، قطعی۔ مُوجَبَة: اثباتی جملہ۔ مستوجب: مستحق، سزاوار، لائق، قابل، شایان شان، موزوں، مناسب

وجح: ا۔ وَجَحَ الشیءُ: ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ أَوْجَحَ: ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ ۔ت النارُ: آگ کا روشن ہونا۔ ۔ت غُرَّةُ الفرس: گھوڑے کے چہرے پر سفید داغ کا ظاہر ہونا۔

۲۔ أَوْجَحَ البیتَ: پر پردہ گرانا۔ ۔هُ إلی کذا: کو کسی طرف فرار ہونے پر مجبور کرنا۔ ۔ البولُ فلاناً: کو پیشاب کا تنگ کرنا۔ ۔ الحافِرُ: کھودنے والے کا کھودتے کھودتے ہموار پتھر تک پہنچ جانا۔ الوَجَحُ: غار نما، کھوہ نما۔ الوَجَاح: پردہ، ہموار چٹان۔ الوُجاح والوِجاح: پردہ۔ الوَجیح: باریک بنا ہوا کپڑا۔ المُوجَح (مفع): پناہ گاہ، جائے پناہ، باریک بنا ہوا کپڑا، ہموار کھال۔ المَوجُوح من الابواب: بند یا پردہ پڑا ہوا دروازہ۔

وجد: ا۔ وَجَدَ یَجِدُ وَجْداً و وُجْدًا و جِدةً و وُجُودًا و وِجْداناً و إجْداناً المطلوب: مطلوب کو پالینا، جو پہلے جا چکا تھا۔ کہا جاتا ہے: وجدتُ الضالَّةَ: میں نے کھوئی ہوئی چیز کو پالیا، جاننے کے معنی میں بھی آتا ہے اس صورت میں یہ افعال قلوب میں سے ہوتا ہے اور دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔ اسکا مصدر وجود ہے۔ جیسے: وجدتُ کلامكَ صَادِقاً: میں نے تیری گفتگو کو سچا جانا یا پایا۔ وَجْداً و وِجْدًا و وُجْداً و جِدَةً المالَ و نحوَهُ: سے مطمئن ہونا۔ یَجِدُ و یَجُدُ وَجْداً بفلان: سے پرجوش محبت کرنا۔ ۔ لَهُ: کیلئے غمگین ہونا۔ ۔ وَجْداً و جِدَةً و مَوجِدَةً و وِجْداناً علیه: پر غضبناک ہونا۔ ۔ یَوجَدُ وَجْداً به: سے پرجوش محبت کرنا۔ ۔ له: کے لئے غمگین ہونا۔ وَجَدَ یَجِدُ وَجْداً و وُجْداً و جِدَةً و وُجُوداً و وِجْداناً و إجْداناً المطلوبَ: مطلوب کو پانا، کا ہاتھ لگنا، کو پڑا پانا، حاصل کرنا۔ وُجِدَ وُجُودًا الشیءُ عن عدمٍ: نیست سے ہست ہونا، موجود ہونا۔ صفت مَوجُود۔ اَوْجَدَ ایجاداً اللّٰہُ الشیءَ: اللہ تعالیٰ کا چیز کو پیدا کرنا، وجود میں لانا۔ ۔هُ مطلوبَهُ: کو مطلوب دلانا، کو مطلوب حاصل کروانا۔ ۔ فلاناً: کو قوی کرنا، کو مالا مال کرنا۔ ۔ علی الأمر: کو پر مجبور کرنا۔ ۔هُ الیه: کو کچھ کرنے پر مجبور کرنا۔ تَوَجَّدَ به: سے محبت کرنا۔ ۔ له: کیلئے غمگین ہونا۔ ۔ السَهَرَ و نحوَهُ: کو بے خوابی وغیرہ کی شکایت ہونا۔ تَواجَدَ: خوشی، محبت یا غم کا دکھاوا کرنا۔ الواجِد (فا): امیر، دولت مند، عاشق۔ کہا جاتا ہے: انا واجدٌ لِلشیءِ: میں اس چیز پر قادر ہوں۔ الجِدَة (مص): دولت تونگری، قدرت طاقت۔ الوَجْد و الوُجْد و الوِجْد (مصادر): دولت، محبت، خوشی، قدرت۔ کہا جاتا ہے: هذا من وُجْدِی: یہ میری طاقت میں ہے۔ الوَجّاد: بہت غضبناک۔ الوِجْدان (مص) (فی عرف بعضهم): ضمیر، خیر و شر کا احساس، دل کی گواہی، غم، خوشی کا جذبہ، نفس اور اس کی باطنی قوتیں۔ الوِجْدانی جمع وِجْدانیات: باطنی شعور، فطرتی قوتوں سے بالاتر قوت کی چیز، مافوق الفطرت، وہ باتیں جن کا باطنی قوتوں سے ادراک ہو۔ الوُجُود (مص): ہونا، ہستی، وجود۔ الوُجُودِی: وجودی، نظریہ وجودیت کا پیرو، نظریہ وجودیت سے متعلق، ہستی موجود۔ الوُجُودِیَة: ہونا، ہستی، نظریہ موجودیت کہ انسان پہلے پہل نیم مابعد الطبیعاتی وجود لے کر پیدا ہوا اپنی تخلیق کرتا ہے اور اپنے عمل سے اپنے نفس کا انتخاب کرتا ہے، یعنی کلیۃً آزاد ہے۔

۲۔ الوَجْد جمع وِجاد: کھڑے پانی کا جوہڑ۔ الوَجِید جمع وُجْدان: ہموار زمین۔

وَجَدَ یَجِدُ وُجُودا ہ: کو پانا، کا ہاتھ لگنا، کو اتفاقاً پانا، سے متعارف ہونا، کو حاصل کرنا۔ ۔ ہ ہ: کو بطور کسی چیز کے ایجاد کرنا، کی بطور کسی چیز کے کمی وغیرہ پوری کر لینا؛ کو اچھا، برا پانا۔ وُجِدَ وُجُوداً: پایا جانا ہونا، موجود ہونا۔ یُوجَدُ: ہے، ہیں۔ ۔ وَجْداً ہ: (مشقتوں، مصائب وغیرہ) کا تجربہ کرنا، کو محسوس کرنا، کا احساس ہونا، کا سا محسوس کرنا۔ ۔: مصیبت میں پڑنا، تکلیف دہ اضطراب کی حالت میں ہونا۔ ۔ ب: سے محبت کرنا، سے جذباتی ہو جانا، کا شدت سے آرزو مند ہونا، کی آرزو میں گھلنا، کے لئے حسرت و یاس کا انداز اختیار کرنا۔ ۔ مَوجِدةً علی: پر ناراض ہونا، سے بغض ہونا، سے کینہ رکھنا۔ اَوْجَدَ ہ: کو بنانا، وجود میں لانا، کا باعث ہونا، کو ابھارنا، کا باعث بننا، کی صورت پیدا کرنا، کا موجد یا مخترع ہونا، کی تخلیق کرنا، کو حاصل کرنا، انجام دینا، بجا لانا، پورا کرنا، کو کرنا، کو ایجاد کرنا۔ ۔ ہ ہ: کو کچھ پانے یا حاصل کرنے دینا، کے لئے کچھ حاصل کرنا، کو کچھ مہیا کرنا۔ ۔ ہ علی: کو پر مجبور کرنا۔ تَوَجَّدَ ب: سے پرجوش محبت کرنا۔ ۔ ل/ب: کے لئے رنجیدہ ہونا۔ تَواجَدَ: (کہیں) جانا، آنا، موجود ہونا (کہیں) ہونا، دستیاب ہونا، (جذبہ وغیرہ کا) اظہار کرنا۔ وَجْد: قوی جذبہ، قوی احساس، جذباتی برہمی، پریشانی یا گڑبڑ، جذبہ، گرمجوشی، سرگرمی، لگن دھن؛ محبت کی خوشی۔ وِجدان: وجد، حال، کیف، جذباتی جوش، جذباتی زندگی، نفسیاتی قوتیں، احساس، جذبہ، جذباتیت۔ وِجْدانی: جذباتی، نفسیاتی، ذہنی۔ وجود: پانا، دریافت، ہونا، ہستی، عرصہ، موجودگی، اتا پتہ۔ وُجُودی: وجود کا، وجود سے متعلق نظریہ وجودیت سے متعلق۔ الفلسفة الوجودیة: نظریہ وجودیت (existentilism)۔ مَوجِدَة: احساس، جذبہ، طیش، عشق، بے حد شوق، جوش، بغض، کینہ، برا ماننا، آزردگی، برا ارادہ۔ واجِد:

پانے والا، مضطرب، بے چین، ہیجان زدہ، پرجوش، برانگیختہ، مشتعل، گھبرایا ہوا، پریشان، برہم (علی کے بارے میں) ـــ ب کی محبت میں مبتلا مَوجُود: پایا ہوا، دستیاب، موجود، حاضر، زندہ مخلوق، مخلوق، شاک، سنور، سپلائی جمع موجودات: ہر موجود چیز، مخلوق، اثاثہ، املاک سامان مال مُوجِد: خالق، تخلیق کرنے والا، مصنف، موجد، مخترع۔

وجد: اَوجَدَهُ الی کذا: کو پر مجبور کرنا ـــ هُ علیه: کو پر مجبور کرنا الوَجد جمع وِجاد و وُجدان: پہاڑی علاقہ میں گڑھا جہاں پانی کھڑا رہتا ہے، بعض کے نزدیک حوض مکان وجِد: بہت گڑھوں والا علاقہ۔

وجر. وَجَرَ یَجِرُ وَجْراً ہُ: کے منہ میں دوا ڈالنا ـــ فلاناً: کو ناگوار باتیں کہنا وَجِرَ یَوجَرُ وَجَراً من کذا: سے ڈرنا صفت وَجِر و اَوجَر مونث وَجِرَة و وَجراء۔ اَوجَرَ اِیجاراً هُ الوَجُور: دوا کو کے منہ میں رکھنا ـــ هُ الرمحَ: کے منہ میں نیزہ مارنا تَوَجَّرَ الماءَ: پانی کو بے دلی سے پینا ـــ الدواءَ: دوا کو تھوڑا تھوڑا کر کے نگلنا اِتَّجَرَ: منہ میں نکالنے کی دوا سے علاج کرنا الوَجْر (مص) جمع اَوجار: غار، کھوہ، مصنوعی غار، غار نما سرد خانہ الوَجرَة والوَجرة جمع اَوجُر: درندوں کے شکار کے لئے کھودا ہوا گڑھا الوِجار و الوَجار جمع اَوجِرَة و وُجُر: وادی کا کنارا جسے پانی کے تیز دھارے نے نیچے سے کاٹ ڈالا ہو، لکڑبگے وغیرہ کا بل الوُجُور و الوَجُور: منہ میں ڈالنے کی یا پکانے کی دوا۔ المیجار: گیند کو مارنے کا بلا المیجَر و المیجَرَة: منہ میں دوا ڈالنے کا آلہ۔

ⓤ وَجْر جمع اوجار: غار، کھوہ، مصنوعی غار، غار نما سرد خانہ، جنگلی جانوروں کا مسکن، بل، بھٹ، مکان، مسکن، مقام، استھان، گھر، پودے کی اصل زمین۔ وَجرة و وُجرة: دھوکے کی جگہ، جنگلی جانوروں کو پکڑنے کا گڑھا وِجار جمع اوجرة (جنگلی جانوروں کی) غار، بھٹ، ماند، بل مِیجار: بیٹ (bat) بلا، ریکٹ، آٹا گوندھنے کا برتن، پرات، کونڈی۔

وجز: وَجَزَ یَجِزُ وَجْزاً الکلامَ: کلام کو مختصر کرنا ـــ الرجُلُ فی منطقه: مختصر گفتگو کرنا وَجُزَ یَوجُزُ وَجازَةَ الکلامُ: کلام کا مختصر اور بلیغ ہونا ـــ وَجْزاً و وَجازَةً و وُجُوزاً الرجلُ فی منطقه: مختصر گفتگو کرنا اَوجَزَ ایجازاً الکلامَ: کلام کا مختصر ہونا ـــ الکلامَ و فی الکلامِ: کلام کو مختصر کرنا ـــ العطیةَ: عطیہ جلد دینا تَوَجَّزَ الشیءَ: حاجت پوری کرنے کے لئے درخواست کرنا اِستَوجَزَ اِستیجازاً الکلامَ: کلام سے زائد باتیں حذف کرنا الوَاجِز: ہلکا اور مختصر ـــ من الکلام: تھوڑا اور جلد سمجھ میں آنے والا کلام الوَجْز (مص): ہلکا اور مختصر ـــ من الکلام: مختصر اور جلد سمجھ میں آنے والا کلام رَجُلٌ وَجْزٌ: پھرتیلا، جلد دینے والا۔ الوجیز: ہلکا، مختصر ـــ من الکلام: تھوڑا جلد سمجھ میں آنے والا کلام المیجاز: مختصر کلام کرنے کا عادی۔

ⓤ وَجز یَجزُ و وَجُزَ یَوجُزُ وَجزاً و وَجازة و وُجُوزاً: مختصر ہونا، مختصر اور جامع ہونا، اختصار پسند ہونا، ایجاز پسند ہونا، سرسری ہونا اَوجَزَ: مختصر اور جامع ہونا، اختصار پسند ہونا، ایجاز پسند ہونا ـــ هُ/فی: میں مختصر ہونا، مختصر اور جامع ہونا ـــ هُ: کی تلخیص کرنا، کا خلاصہ لکھنا، کا خلاصہ کرنا، کا اختصار کرنا، کو مختصر کرنا۔ وَجز: مختصر اور جامع، جامع بات کہنے والا، اختصار پسند، ایجاز پسند، خلاصہ جامع وَجیز: بمعنی وَجْز۔ بوجیزِ العبارة: مختصر طور پر بیان کردہ، چند لفظوں میں، مختصر ترین لفظوں میں، ضروری باتوں تک مختصر ایجازاً یا بالایجاز: مختصراً مختصر طور پر۔ والیکها بالایجاز: مختصراً یہ ذیل میں پیش ہے۔ مُوجَز: خلاصہ کیا ہوا، مختصر، موجز، جامع، مختصر اور جامع، خلاصہ ما حصل، ملخص (کی) مختصر صورت، خاکہ، (کے) اہم نکات، مختصر بیان، تلخیص۔

وجس. وَجَسَ یَجِسُ وَجْساً: پوشیدہ ہونا ـــ تِ الاُذنُ: کان کا آہٹ سننا ـــ و ـــ وَجَساً و وَجَساناً: سنی ہوئی بات یا دل میں پڑی ہوئی بات کا خوف محسوس کرنا اَوجَسَ اِیجاساً الرجُل: محسوس کرنا، دل میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے اَوجَسَ القلبُ فزعاً: دل نے گھبراہٹ محسوس کی ـــ تِ الاُذنُ: کان کا آواز سننا تَوَجَّسَ: آہستہ آواز پر کان لگانا ـــ فزعاً: گھبراہٹ محسوس کرنا ـــ الصوتَ: کو دُور سے سننا ـــ تِ الاُذنُ: کان کا آواز سننا الواجِس (فا): دل میں آنے والا خیال الوَجْس (مص): پوشیدہ آواز، دل کی گھبراہٹ۔

۲ تَوَجَّسَ الطعامَ او الشرابَ: تھوڑا تھوڑا کھانا یا پینا الاَوجَس: تھوڑی خوردونوش کی چیز۔

۳ الاَوجَس: زمانہ۔ کہا جاتا ہے لا افعله سَجِیسَ الاَوجَس: میں اسے کبھی نہیں کروں گا۔

ⓤ وَجَسَ یَجسُ وَجساً و وَجَساناً: تشویش مند ہونا، خوفزدہ ہونا، پریشان ہونا اَوجَسَ هُ: کے اندیشے رکھنا، (آنے والے خطرت کا) احساس کرنا، ماتھا ٹھنکنا، سے خائف ہونا، ڈرنا، وحشت کھانا، کو محسوس کرنا، کا احساس ہونا، سے آگاہ ہونا اَوجَسَ خِیفَةً: خوف کا احساس کرنا اَوجَسَ فیه المَلَلَ: محسوس کرنا کہ فلاں شخص اکتا رہا ہے یا بور ہو رہا ہے، کی بوریت، اکتاہٹ یا بیزاری کو محسوس کرنا تَوَجَّسَ بمعنی اَوجَسَ نیز تَوَجَّسَ هُ: کو تشویش اور پریشانی سے سننا، کو چکھنا، کو کتر کے کھانا، کی چسکی لینا۔ تَوَجَّسَ شَرّاً من: کو برا شگون سمجھنا اَوجَس: خوف اندیشہ، پریشانی، بے چینی فکر تَوَجُّس: بودا پن، بزدلی، اندیشہ مندی، فکرمندی اَوجَس: پریشان کن یا بے چین کرنے والا خیال، بدشگونی، بری پیش اندیشی یا پیش آگاہی۔

وجع. وَجِعَ یَوجَعُ وَجَعاً: بیمار ہونا، درد میں مبتلا ہونا۔ (مضارع یَیجَعُ یا یاجَعُ بھی آتا ہے) ـــ فلاناً رأسُهُ و وَجِعَ فلانٌ رأسَهُ: کے سر میں درد ہونا اَوجَعَ اِیجاعاً هُ: کو دکھ دینا، تکلیف پہنچانا ـــ فی العدُوِّ: دشمن کا قتل عام کرنا تَوَجَّعَ: شکایت کرنا، غم ظاہر کرنا ـــ له: کے لئے نرم ہونا الوَجَع جمع وِجاع و اَوجاع: مرض، دکھ، تکلیف۔ الوَجِع جمع وَجِعُون و وَجعی و وجاعَی و وِجاع و اَوجاع م وَجِعَة جمع وَجاعَی و وَجِعات: دردمند، جسے درد ہو، تکلیف ہو الوَجیع: درد پہنچانے والا، درد انگیز، دردناک۔ کہا جاتا ہے: ضربٌ وجیعٌ: دردناک مار جیسے کہا جاتا ہے عذابٌ الیم: دردناک عذاب الاَوجَع: بہت تکلیف پہنچانے والا۔ (اسم تفضیل ہے خلاف قاعدہ اَوجَعَ سے بنایا گیا ہے جو مزید فیہ کا صیغہ ہے)۔

۲ الجَعَة: جو کی نبیذ الوَجعاء جمع وَجعاوات: دُبُر۔

ⓤ وَجِعَ یَوجَعُ وَجَعاً: تکلیف یا درد محسوس کرنا، تکلیف میں ہونا ـــ هُ: کو تکلیف پہنچانا اَوجَعَ هُ: کو تکلیف پہنچانا، کو تکلیف پہنچانے کا باعث بننا تَوَجَّعَ: درد میں مبتلا ہونا، تکلیف میں ہونا، اپنی تکلیف کا اظہار کرنا، آہ وزاری کرنا، غم و افسوس کرنا ـــ لِ: کے لئے رنج، افسوس، ترس محسوس کرنا، کے لئے رحم یا خداترسی محسوس کرنا، پر ترس کھانا، رحم کھانا، دیا کرنا وَجَع جمع اَوجاع و وِجاع: درد، تکلیف، بیماری وجع السِّنّ: دانت درد الوجع بِکَبِدِكَ: لعنت، نفرین (لفظی معنی: خدا کرے تمہارے کلیجے کو درد ہو)۔ وَجیع: تکلیف دہ، پردرد، غمگین، مہلک، سنگین المناک

دردانگیز۔ تَوَجُّع :تکلیف درد، روناچلانا، آہ وزاری، غم وافسوس۔ مُوجوع :تکلیف محسوس کرنے والا، تکلیف میں، دکھی بیمار، تکلیف اٹھانے والا۔

وجف: وَجَفَ یَجِفُ وَجْفًا و وجیفًا و وُجُوفًا الشیءُ: مضطرب ہونا۔ — وَجِیفًا القلبُ: دل دھڑکنا صفت: وَجّاف و واجف۔ — وَجْفًا و وجیفًا الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ صفت: وَاجف۔ اَوْجَفَ الفرسَ: گھوڑے کو تیز دوڑانا۔ — الباب: دروازہ بند کرنا۔ — الشیءَ: کو ہلانا، حرکت دینا، مضطرب کرنا۔ اِسْتَوْجَفَ الحُبُّ فؤادَهُ: محبت کا دل کو چھین لینا۔ الوجیف (مص) خوف سے گرنا ناقةٌ مِیجَاف: تیز دوڑنے والی اونٹنی۔

۞ وَجَفَ یَجِفُ وَجْفًا و وُجُوفًا و جیفًا: برانگیختہ ہونا، پریشان ہونا، ہیجان زدہ ہونا، بے قرار ہونا، بے کل ہونا، جوش میں آنا، مشتعل ہونا۔ — وَجَفَ (دل) دھڑکنا، پھڑکنا۔ اَوْجَفَ ہ: کو حرکت میں لانا، میں ہلچل پیدا کرنا، کو برانگیختہ کرنا، اکسانا، بھڑکانا، ہلانا، گھنگھولنا، میں تلاطم پیدا کرنا، کو پریشان کرنا، درہم برہم کرنا، گھبرا دینا، تشویش یا الجھن میں ڈالنا، لرزانا، پر لرزہ طاری کرنا، کو ہلانا، پر کپکپاہٹ طاری کرنا۔ اِسْتَوْجَفَ ہ (دل کو) پھڑکانا، بے چین کرنا، مرتعش کرنا۔ واجف دھڑکنے والا، پھڑکنے والا (دل)۔ فی صوت واجف مرتعش، لرزان یا کانپتی ہوئی آواز میں۔

وحق: الوُجَاق و الأُوجَاق جمع وجاقات: چولہا، آگ جلانے کی جگہ، فوج کی ترتیب (ترکی لفظ)۔

۞ وجاق و اوجاق جمع وجاقات: ولائتی چولہا (cooking range) (پکانے والا) سٹوو، (گرم کرنے والا) سٹوو، باورچی خانہ، جہاز کا باورچی خانہ، جانثار فوجیوں کا دستہ۔

وجل ا۔ وَجَلَ یَوْجَلُ وَجْلاً ہٗ: سے زیادہ ڈرنے والا ہونا، سے بڑھ کر ڈر جانا۔ وَجِلَ یَوْجَلُ وَجَلاً و مَوْجَلاً: ڈرنا، یا خوف محسوس کرنا (اس کا مضارع یَیْجَلُ وَیَاجَلُ اور یِیجَلُ بھی آتا ہے)۔ وَجَلَ یَوْجَلُ وَجَالَةً: بوڑھا ہونا۔ واجل مُوَاجَلَةً فَوَجَلَهُ: اس نے اُس سے خوف میں مقابلہ کیا تو وہ اس سے بڑھ کر ڈر گیا۔ اوجل ہ: کو ڈرانا، کو خوف زدہ کرنا۔ الوَجَل جمع اَوْجَال: ڈر، خوف۔ الوجل جمع وَجِلُون و وِجَال مونث وَجِلَة: ڈرنے والا، خوف زدہ۔ الأَوْجَل: خوف زدہ (مونث میں وجلاء نہیں کہتے بلکہ وَجِلَة کہتے ہیں)۔ کہا جاتا ہے: هو اَوْجَلُ مِنكَ: وہ تم سے زیادہ خوف زدہ ہے یا زیادہ ڈرنے والا ہے۔ الوُجُول بوڑھے (لوگ)۔ المَوْجَل: خوف کی جگہ۔

۲- الوَجِیل والمَوْجَل: وہ گڑھا جس میں پانی جمع رہے۔

۞ وَجِلَ یَوْجَلُ وَجَلاً و مَوْجَلاً: خوف زدہ ہونا، سہما ہوا ہونا، بزدل ہونا، ڈرپوک ہونا، پست ہمت ہونا۔ اَوْجَلَ ہٗ: کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، وحشت زدہ کرنا۔ وَجَل جمع اَوْجَال: خوف، دہشت۔ وَجِل جمع وَجِلُون و وِجَال: خوف زدہ، ڈرا ہوا، بزدل، ڈرپوک، پست ہمت، اندیشناک، سہما ہوا۔

وجم ا۔ وَجَمَ یَجِمُ وَجْمًا ہٗ: کو مکا مارنا۔

۲- وَجَمَ یَجِمُ وَجْمًا و وُجُومًا: غصہ یا خوف کی شدت کی وجہ سے خاموش رہنا اور بول نہ سکنا (کہا جاتا ہے: لَمْ أَجِمْ عنه: مجھ نے گھبراہٹ کی وجہ سے اسے جواب نہیں دیا) غم کی زیادتی سے ترش رو ہو کر سر جھکا لینا۔ صفت: وَجِم و واجِم۔ — من الأمر: سے اس کو ناپسند کرتے ہوئے ہٹ جانا۔ — الشیءَ: کو ناپسند کرنا۔ — لفلان من کذا: کسی پر کسی وجہ سے دل نرم ہونا، غم کھانا۔ الأَوْجَم اسم تفضیل۔

۳- الوَجَم جمع وُجُوم و أَوْجَام ٹیلوں یا قبروں پر پتھروں کا ڈھیر یا جنگلوں میں راستہ کے نشانات۔ رُجلٌ وَخْمٌ بُرا آدمی۔ کہا جاتا ہے: هو وَخْمُ سوءٍ: وہ برا آدمی ہے۔ بیتٌ وَجْمٌ: بڑا گھر۔ الوَجَم بخیل، کمینہ، ہلکے پھلکے جسم والا۔ — جمع وُجُوم و اَوْجَام بمعنی الوَجَم۔ بیتٌ وَجَم: بڑا گھر۔ الوَجْمَة: ایک مرتبہ کی خوراک۔ الوَجمَة: بے عزتی، رسوائی۔ الوَجِیمُ من الأیام: سخت گرم دن۔ اوجمُ الرمل: ریت کا بڑا قطعہ۔

۞ وَجَمَ یَجِمُ وَجْمًا و وُجُومًا: خاموش ہونا، بے زبان ہونا، بے سخن ہونا، گم سم ہونا (خوف غصہ وغیرہ کی وجہ سے) شرمیلا ہونا، جھینپنے والا ہونا، پست ہمت، دل شکستہ ہونا، رنجیدہ، آزردہ یا اداس ہونا، افسردہ ہونا، دل گیر ہونا، ملول ہونا۔ وَجِم خاموش، چپ چاپ، بے زبان، بے سخن، گم سم، جھینپنے والا، پست ہمت، دل شکستہ، رنجیدہ، افسردہ، آزردہ، اداس، دلگیر، ملول۔ وُجُوم: خاموشی، تشویشناک اور پریشان کن خاموشی، غصہ کی وجہ سے بے زبانی، بے زبان غصہ، دل شکستگی، مایوسی، یاس، ناامیدی، شرمیلا پن، پریشانی، تشویش، فکر، غم۔ واجم: خاموش، بے زبان، گم سم، دل شکستہ، آزردہ، افسردہ، دل گیر، ملول۔

وجن: وَجَنَ یَجِنُ وَجْنًا بالشیءِ: کو پھینکنا۔ — الوتدَ: میخ، کھونٹی ٹھونکنا۔ — به الارضَ: کو زمین پر پچھاڑنا۔ — القصّارُ الثوبَ: دھوبی کا کپڑے کو کوٹنا۔ وَجَّنَ الجلدَ: چمڑے کو نرم کرنے کے لئے کوٹنا۔ تَوَجَّنَ: ذلیل ہونا، عاجز ہونا، مطیع ہونا۔

الواجن و الوَجْن و الوَجَن: سخت پتھریلی زمین۔

الوَجْنَة و الوِجْنَة و الوُجْنَة و الوَجَنَة و الأُجْنَة و الإِجْنَة و الأَجْنَة جمع وَجَنَات: گالوں کا ابھرا ہوا حصہ، رخسارہ۔ الوَجِین جمع وُجُن وادی کا کنارہ، سامنے کی پتھریلی اور قدرے اونچی زمین۔

الأَوْجَن مونث وَجْنَاء: سخت پہاڑ، بڑے رخساروں والا۔ ناقةٌ وَجْنَاء: سخت اونٹنی۔ المُوَجَّن: بڑے رخساروں والا، بہت گوشت والا۔ المَوْجُون (مفع) شرمندہ۔ المِیجَنَة جمع مَیَاجِن و مَوَاجِن: دھوبی کی کپڑے کوٹنے کی موگری۔

۞ الوَجْنَة جمع وَجَنات: عارض، رخسار، گال۔

وجه ا۔ وَجُهَ یَوْجُهُ وَجَاهَةً: ذی وجاہت ہونا۔ وَجَّهَ الامیرُ: کو امیر کا با عزت بنانا۔ — الشیءَ: کو کسی طرف پھیرنا۔ — القومُ الطریقَ: قوم کا راستہ پر چلنا اور نشان واضح کرنا۔ — المطرُ الأرضَ: بارش کا زمین کا خول اتارنا اور زمین پر نشان ڈالنا، زمین پر ایک روش سے پڑنا۔ — لعبدِهِ: اپنے غلام سے کہنا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ — البیتَ: گھر کو قبلہ رخ کرنا۔ — الی فلان: کی طرف جانا۔ — ہٗ الی فلان: کو کے پاس بھیجنا۔ — ت الریحُ الحصی: ہوا کا کنکریاں اڑا لیجانا۔ وَاجَهَ وِجَاهًا و مُوَاجَهَةً ہٗ: کے آمنے سامنے ہونا، سے رو در رو ملنا۔ کہا جاتا ہے: لَقِیَهُ مُوَاجَهَةً و وِجَاهًا: وہ اس سے رو برو ملا۔ اَوْجَهَ إیجَاهًا الرجلَ: کو وجیہ بنانا، وجیہ پانا، کو مرتبہ دینا، کو رد کرنا۔ تَوَجَّهَ إلیه: کے پاس جانا، کا قصد کرنا۔ — الجیشُ: لشکر کا شکست کھانا۔ — الشیخُ: بوڑھے کا سن رسیدہ ہونا۔ تَوَاجَهَ الرجلان او المنزلان: دو آدمیوں یا مکانوں کا آمنے سامنے ہونا۔ اِتَّجَهَ الیه: کے پاس جانا، کی طرف متوجہ ہونا۔ — لَهُ رأیٌ: کو رائے سوجھنا۔ الواجِهَة: پیشانی، سامنے کا حصہ۔ الجِهَة و الجَهَة و الجُهَة جمع جِهات و جَهات و جُهات و الوُجْهَة و الوِجْهَة: پہلو، جانب، گوشہ، رخ، جس کی طرف توجہ ہو۔ کہا جاتا ہے: ضَلَّ وِجْهَةَ أَمرِهِ: وہ اپنا قصد بھول گیا۔ الوَجْه (مص) جہت (کہا جاتا ہے:

لهذا القولُ وَجْهٌ: اس قول کا ایک ماخذ یا ایک رخ ہے)، قصد و نیت (کہا جاتا ہے: الوجه ان یکون کذا: ظاہر قصد یہ ہے کہ ایسا ہو) کام وغیرہ جس کی طرف انسان متوجہ ہو، خوشنودی (کہا جاتا ہے: فعل ذلك لوجه اللّٰه: اس نے یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کیا)، مرتبہ، منصب۔ ـــ جمع وُجُوه: قوم کا سردار (کہا جاتا ہے: رجُلٌ وَجْهٌ: صاحب عزت و قدر آدمی) نوع، قسم۔ وجهُ الکلام: گفتگو کا مقصود (کہا جاتا ہے: الکلام فیه علی وجوهٍ او علی اربعة اوجه: اس گفتگو کے کئی یا چار مقصود ہیں۔ لیس لکلامك وَجْهٌ: تمہاری بات صحیح نہیں یا تمہاری بات کی کوئی وجہ صحت نہیں۔ صرف الشیءَ عن وَجهِهِ: اس نے چیز کو اس کے مروجہ عمل سے ہٹا دیا)۔ ـــ ج اَوْجُه و وُجُوه و اُجُوه: چہرہ (کہا جاتا ہے: رجُلٌ ذو وجهین: وہ شخص جو دل کی بات کے خلاف بات ظاہر کرے۔ فلانٌ اَحْسَنُ القوم وجهًا: فلاں شخص قوم میں سب سے اچھی حالت میں ہے۔ ضربَ وجهَ الأمر و عینه: اس نے کام کی اچھی تدبیر کی۔ مضی علی وَجْهِهِ: وہ بے پروائی سے گزرا۔ ابیضَّ وَجْهُهُ و بَیَّضَ اللّٰهُ وجهَهُ: یہ اس وقت کہتے ہیں جب کہ کوئی شخص قابل تعریف کام کرے۔ اسوَدَّ وَجْهُهُ یا سَوَّدَ اللّٰهُ وجهَهُ: یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی قابل ملامت کام کرے۔ وجهُ الثوب و نحوه: کپڑے کا سیدھا حصہ۔ وجهُ الدهر: کسی زمانہ کا شروع، کسی زمانہ کا پہلا حصہ۔ (کان ذلك علی وجه الدهر: یہ اس زمانہ کے شروع میں ہوا)۔ کثیر الوجوه: جانب، کنارہ، گوشہ، کثیر الزوایہ یا کثیر الاضلاع (شکل) الوِجْه و الوُجْه: جانب، کنارہ، گوشہ۔ لوَجه و الوَجْه: صاحب جاہ و مرتبہ۔ کہا جاتا ہے: هُمْ وِجَاهُ الفٍ: وہ کوئی ایک ہزار ہیں۔ وَجَاهَةُ و وُجَاهَةُ و وِجَاهَةُ و تِجاهَةُ و تُجاهَةُ و تَجاهَةُ: کے سامنے، کے مقابل۔ قعدوا تجاهَهُ و وجاهَهُ: وہ اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ الوَجَاهَة (مص): جاہ و مرتبہ، عزت۔ الوَجِیه جمع وُجَهَاء مؤنث وَجِیهَة جمع وَجِیهات و وَجَائِه: قوم کا سردار، صاحب وجاہت۔ ـــ من الأکسیة: دورخی چادر۔ الوَجِیهَة: وجیہ کا مؤنث: ایک دورخا مہرہ جسے نظر بد سے بچنے یا حصول عزت کی خاطر گردن میں لٹکاتے ہیں۔ الأَوْجَه: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے: هو اوجهُ قومِهِ: وہ قوم میں سب سے زیادہ وجاہت کا مالک ہے۔ نظروا الیَّ باُوَیْجِهِ سوءٍ: اس نے میری طرف بری نظر سے دیکھا۔ (اُوَیْجِه اَوْجُه کی تصغیر ہے جو وجہ کی جمع ہے)۔ التَوْجِیه (مص) فی علم العروض: روی مقید کے ماقبل حرف کی حرکت کا اختلاف جیسے لَعِبْ و عِنَبْ میں روی مطلق اور تاسیس کا درمیان جیسے منازل میں زْ۔ المُوَجَّه: ذی جاہ۔ ـــ من الکساء: دورخی چادر۔ ـــ من الکلام: ایسا کلام جس میں دو مخالف باتوں کا احتمال ہو اور مدح یا ذم ہونا صحیح ہو۔ شیءٌ مُوَجَّهٌ: ایک ڈھنگ پر بنی ہوئی چیز۔ المُواجَهَة (مص): ملاقات (کلام سے یا روبرو)۔

۲- الوَجْه و الوَجَه: تھوڑا سا پانی۔

○ وَجُهَ یَوْجُهُ وَجَاهَةً: صاحب مرتبہ ہونا، مشہور و معروف ہونا، معززین میں سے ہونا۔ وَجَّـهَ هُ: کو ناموری تک پہنچانا، کی عزت و توقیر کرنا، کو ممتاز کرنا۔ وَجَّهَ اِلی: کی طرف رخ کرنا، مڑنا، جانا، کی جانب بڑھنا۔ ـــ ہ الی: کو کے پاس بھیجنا، کو کی طرف روانہ کرنا، کو ارسال کرنا۔ ـــ ہ الی/ل: بندوق تیر وغیرہ کا رخ کی طرف کرنا، کو سے ضرب لگانا، کا رخ کی طرف کرنا، کو کی سمت چلانا، کو کا راستہ دکھانا، کا کی طرف راستہ نکالنا، کا رخ کی طرف کرنا، کی توجہ کی طرف موڑنا۔ ـــ ہ اِلی: (درخواست، سوال، خط وغیرہ کو) کو لکھنا۔ وَجَّهَ الیه تُهْمَةً: پر الزام لگانا، تہمت لگانا۔ وَجَّهَ النظر اِلی: کی طرف آنکھیں موڑنا۔ وَاجَـهَ ہ: کے مقابل ہونا، کے سامنے ہونا، کا رخ کرنا، سے روبرو ملنا، سے مڈبھیڑ ہونا۔ ـــ ہ: کو ذاتی طور پر ملنا، سے ذاتی طور پر گفتگو کرنا، کے ساتھ انٹرویو کرنا، کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کرنا۔ ـــ ہ: (مسئلہ وغیرہ) کا سامنا کرنا، کا سامنا ہونا، اپنے آپ کو کے مقابلہ میں پانا۔ ـــ ہ: (خطرہ وغیرہ) کا مقابلہ کرنا، منہ توڑ جواب دینا، کا توڑ کرنا، سامنا کرنا، کو للکارنا، کو خاطر میں نہ لانا۔ ـــ ہ: کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کی مخالفت کرنا۔ ـــ ہ: کے مقابلہ میں اپنی بات پر جما رہنا؛ کا پورا احساس رکھنا، پر غور کرنا۔ ـــ ہ باَن: سے کھل کر بیان کرنا یا کہنا کہ۔ ـــ ہ ب: کو کے آمنے سامنے کرنا، کو کے روبرو کرنا، کو کے سامنے رکھنا یا لانا۔ اَوْجَهَ ہ: کی عزت کرنا، کو ممتاز کرنا۔ تَوَجَّهَ نحو یا اِلی: کے پاس جانا، کی طرف جانا، کی راہ لینا، کی طرف بڑھنا، کی طرف اپنے قدم موڑنا۔ ـــ اِلی یا لِ: کی طرف منہ پھیرنا، کی طرف مڑنا، کے سامنے ہونا۔ ـــ اِلی ب: کا کے لئے رخ کرنا، سہارا لینا، کے لئے سے درخواست کرنا۔ تَوَاجَهَ: ایک دوسرے کا سامنا کرنا، روبرو ملنا۔ اِتَّجَهَ اِلی/نحو: کی طرف مائل ہونا، متوجہ ہونا، مائل بہ ہونا، کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، کی طرف بڑھنا، کی طرف منہ کرنا، منہ کی طرف پھیرنا، کی طرف توجہ کرنا، کا رخ کرنا۔ ـــ اِلی یا نحو: (سڑک کا) کی طرف جانا، کی طرف اشارہ کرنا۔ اتجه ل: کے دل میں (خیال وغیرہ) آنا۔ جِهَةٌ جمع جِهَات: جانب، رخ، سمت، طرف، علاقہ، حصہ، خطہ، رقبہ، ضلع، احاطہ، شہری علاقہ، ایجنسی، اتھارٹی، انتظامی ایجنسی، انتظامی ضلع، ضلع (تونس میں)۔ الجهات: دور افتادہ علاقے، یا ضلع: صوبے۔ مِن جِهَة: کی طرف سے، سے، (کے) بارے میں، (کی) بابت، (کے) متعلق، جہاں تک اس کا تعلق ہے، بابت، دوبارہ، نسبت حق میں۔ من جهة الشمال: شمال سے۔ من جهة ...... و من جهة اُخری (یا ثانیه): ایک طرف ...... دوسری طرف۔ من کلِّ جِهَةٍ: سب طرف سے، سب طرف۔ من جِهَتِي: جہاں تک میرا تعلق ہے۔ مِن هذه الجِهَة: جیسا کہ اس زاویہ سے دکھائی دیتا ہے، اس پہلو کے تحت، اس نقطہ نظر سے۔ جِهَةُ الاختصاص یا الجهة المُخْتَصَّة: حاکم مجاز، مختار عہدہ دار۔ جِهَةَ الیَسار: بائیں، بائیں طرف، بائیں جانب۔ مجلسٌ جِهَوِي: ضلع کونسل۔ (تونس)۔ وَجْه جمع وُجُوه: چہرہ، صورت، چہرہ مہرہ، روپ، پیشانی، رخ، سامنے، آگے، کسی عمارت کا روکا حصہ، اگواڑہ سامنے کا حصہ، مکان کا آگا، باہر، سطح، کپڑے کا سیدھا رخ (گھڑی یا گھنٹہ کا) ڈائل، (سکہ کا) سیدھا یا چہرے والا رخ، ممتاز شخصیت، بیرونی (حالت) صورت، شکل، وضع، وضع قطع، ملتی ہوئی صورت، مشابہت، جانب، جہت، سمت رخ، ارادہ، نیت، مراد، غرض، مطلب، منشا، مقصد، مدعا، انجام، راستہ، پالیسی، رہنما اصول، فرمان، حکم، ضابطہ عمل، طریقہ، اسلوب، طرز، طور، رواج، ریت، طریق کار، اسلوب کار، دستور العمل، وجہ، سبب، معنی، مطلب، غائت، شروع، آغاز، ابتداء، وقت کا پہلا حصہ۔ جمع وُجُوه و اَوْجُه: پہلو، شکل، صورت، طرف، نقطہ نظر، راستہ، نقطۂ نگاہ، زاویہ نگاہ۔ (ج) اَوْجُه: چاند کی شکلیں (بجلی کی شکلیں، دور بھی) وَجْهًا: ظاہرا، نظر بہ ظاہر، بظاہر۔ وَجْهًا بوَجهٍ یا لوَجهٍ: آمنے سامنے، روبرو، علیحدگی میں، ذاتی طور پر، براہ راست۔ وَجْهًا من الوجوه: (نفی کے ساتھ) کسی طرح بھی نہیں۔ بوجه

الإجمال: بحیثیت مجموعی، فی الجملہ، زیادہ تر ہر طرح سے عام طور پر، عموماً۔ بَوَجهِ التقريبِ يا على وَجهِ التقريبِ: تقریباً، قریب قریب، غور سے۔ بِوَجهٍ خاصٍ یا علی وَجهٍ خاصٍ: خاص کر، خصوصاً، بالخصوص، غیر معمولی طور پر، حد درجہ۔ بِوَجهٍ عامٍ یا علی وَجهٍ عامٍ: عموماً، عام طور پر۔ بِوَجهٍ مَا: کسی نہ کسی طرح، کسی طرح، ایک خاص حد تک۔ بِدُونِ وَجهِ حقٍ: کسی قانونی یا جائز دعوی کے بغیر، ذرا بھی مستحق ہوئے بغیر، قطعی غیر قانونی طور پر۔ علی وَجهِ: کے طریقہ، انداز، اسلوب یا شکل میں، کے بارے میں، کے متعلق، در بارہ۔ علی وَجهِهِ: اپنے طریقہ پر، صحیح طور پر، مناسب طور پر، صحیح طرح جیسا کہ ہونا چاہئے۔ علی غیرِ وَجهِهِ: غلط طرح، غیر مناسب طریقہ سے، غلط طور پر۔ مَضَی علی وَجهِهِ یا ذَهبَ علی وَجهِهِ: وہ اپنے راستہ پر گیا، وہ اپنے ہی راستہ پر گیا۔ علی هذا الوجه: اس طرح یو۔ علی وجه الإجمال: بحیثیت مجموعی، فی الجملہ، زیادہ تر، ہر طرح سے، عام طور پر، عموماً، سب ملا کر، کل، مجموعی طور پر۔ علی الوجه التالی: مندرجہ ذیل طریقہ پر، حسب ذیل۔ علی وجهِ التفصیل: بالتفصیل، مفصل، تفصیل سے، تفصیلاً۔ علی وَجهِ الحَصرِ: مختصر شکل میں، مختصراً، مختصر ترین لفظوں میں، اختصار سے۔ علی وجهِ العموم: عام طور پر، عموماً۔ علی وجه الیقین: تیقن سے۔ فی وجههِ: اس کے سامنے، اس کی موجودگی میں، اس کے مقابل، اس کی آنکھوں (نظروں) کے سامنے۔ لِوجهِ اللّٰه: اللہ تعالی کے لئے، اللہ تعالی کے واسطے، اللہ تعالی کی خاطر، اس زندگی میں کسی انعام و اکرام سے قطع نظر کسی معاوضہ کے بغیر، مفت، بلا معاوضہ، بلا قیمت۔ مِن کلِّ وجهٍ: ہر پہلو سے، ہر نقطہ نظر سے، سب بنیادوں پر۔ مِن وُجوهٍ کثیرةٍ: کئی پہلوؤں سے۔ مِن بعضِ الوجوه: بعض پہلوؤں سے۔ مِن کُلِّ الوجوه: ہر پہلو سے، ہر طرح، مکمل طور پر۔ اِبیَضَّ وَجهُهُ: شاندار شہرت رکھنا، نیک شہرت رکھنا۔ اِسوَدَّ وَجهُهُ: بدنام ہونا، بے اعتبار ہونا، کی ساکھ ختم ہو جانا، رسوا ہونا۔ اخذ وَجهاً: عزت حاصل کرنا، وقار حاصل کرنا۔ اخذ وجه العروسة: خلوت صحیحہ کرنا۔ اهانهُ فی وَجهِهِ: کی اس کے منہ پر توہین کرنا۔ بَیَّضَ وَجهَهُ: کو بے داغ ظاہر کرنا، کی بریت میں کچھ کہنا، کو بری کرنا، بری الذمہ قرار دینا، کو بے گناہ ثابت کرنا، کا جواز پیش کرنا، کو بڑی اہمیت دینا، کی عزت و تکریم کرنا۔ خلالَهُ وَجهُ الطریقِ: اس کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کا راستہ صاف تھا۔ سَفَهَ وَجهَهُ یا سَوَّدَ وَجهَهُ: کو بے نقاب کرنا، کا پول کھولنا، کی اصلیت بتانا، کی حقیقت سے آگاہ کرنا، کو بدنام کرنا، کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ شَوَّهَ وَجهَ الحقیقةِ: حقیقت کی شکل بگاڑنا۔ شَوَّهَ وَجهَ الوظیفةِ: اپنے پیشہ یا منصب کو رسوا کرنا۔ ضَرَبَ وجهَ الامرِ وعینَهُ: معاملہ کی روح کے متعلق کچھ کہنا، نشانے پر پہنچنا۔ قام فی وجه فلان: کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کا مقابلہ کرنا۔ الوجهُ البَحرِی: نچلا مصر۔ الوجه القِبلی: بالائی مصر۔ وجهُ الحال: حالات، معاملات کی حالت، واقعاتی صورت حال۔ وَجهُ الشَّبهِ: مشابہت کا نقطہ۔ کلام ذو وجهین: مبہم الفاظ، ذو معنی یا مشتبہ بیان۔ وجوهُ الناس: ممتاز لوگ، سرکردہ شخصیات۔ لا وَجهَ لَهُ: کی کوئی وجہ نہیں۔ لا وجهَ لَهُ من الصحة: اس کی بالکل کوئی معقولیت نہیں، یہ قانونی طور پر قطعاً جائز نہیں۔ وَجهِی: چہرے کا، چہرے کے متعلق۔ وِجهَة و وُجهَة جمع وجهات: رجحان، سمت، رخ، طرف، بہاؤ، دھارا، رو، میلان، (بحری جہاز کا) راستہ، ارادہ، مقصد، ہدف، نشانہ، عزت، احترام۔ وِجهَةُ النظر: زاویہ، نقطہ نظر، نقطہ نگاہ۔ من هذه الوِجهَةِ: اس بارے میں، اس نقطہ نظر سے۔ من وِجهَةٍ اخری: مختلف نقطہ نگاہ سے، ایک اور نقطہ نظر سے۔ وِجهتُهُ باریس: وہ پیرس کے سفر پر ہے، وہ پیرس جا رہا ہے۔ وَجَاهَة: لحاظ، پاس، شہرت، نیک نامی، وقار، اثر (و رسوخ)، مسلمہ حیثیت، رتبہ، امتیاز، اہم شخصیت، قبولیت، پسندیدگی، مضبوط بنیاد، اچھی حالت، ٹھوس پن، درستی، صحت، جواز۔ ذو وَجَاهَةٍ: رتبہ والا، نامور، ممتاز، مشہور۔ اهلُ الوجاهة: معززین۔ وِجَاهِی: متناقض، مخالف، برعکس، برخلاف، منافی۔ وَجِیه جمع وُجهاء: معزز، معروف، مشہور، نامور، ممتاز، قابل احترام، رہنما، قابل قبول، مضبوط بنیادوں والا، صحت مند۔ الوُجهاء: معززین۔ سبب وَجِیه: درست و مضبوط وجہ۔ وَجِیهَة جمع وَجِیهات: اعلی اجتماعی حیثیت رکھنے والی خاتون، معاشرہ کی خاتون۔ تِجاهَ: کے سامنے، کے مقابل۔ توجیه جمع توجیهات: (ماتحتوں کے لئے) مفصل ہدایات، ہدایات۔ توجیه خطاهُ: کو ملنے والی ہدایات۔ السنة التوجیهیة: ثانوی مدرسہ کا پانچواں گریڈ جس کی تکمیل یونیورسٹی میں داخلہ کے لئے ضروری ہے۔ شهادة توجیهیة: ڈپلوما جو ثانوی سکول کے پانچویں گریڈ پاس کرنے پر دیا جاتا ہے، جس کے بعد کامیاب طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ طَلَبةُ التوجیهی: ثانوی مدرسہ کے پانچویں گریڈ کے طالب علم۔ بمواجهته: اسکی موجودگی میں۔ تَوَجُّهٌ: توجہ، جانب داری، جنبہ داری، پاسداری، سرپرستی۔ اِتِّجاه جمع اتجاهات: رخ، طرف، سمت، میلان، رجحان، جھکاؤ، بہاؤ، دھارا، راست رخ بندی (بحری جہاز کا) راستہ۔ طریق ذو اتجاهٍ واحدٍ: یک طرفہ ٹریفک کی سڑک۔ اتجاه واحد: صرف یکطرفہ (ٹریفک کا نشان)۔ وَاجِهَة جمع وَاجِهات: چہرہ، پیشانی، بیرونی (عمارت کا) پیش یا ماتھا، چہرہ مہرہ، کھڑکی جس میں دوکاندار فروخت کی چیزوں کی نمائش کرتا ہے، شو ونڈو (show window)۔ واجهة القتال: فرنٹ لائن، لڑائی کا محاذ۔ مُوَجِّه: میٹ (بحریہ کا ایک رتبہ)۔ مُوَجَّه: ریموٹ کنٹرولڈ؛ گائڈڈ (دور سے کنٹرول یا گائڈ شدہ)۔ مُتَّجِه: جانے والا، مائل، ہادف (فی ایک سمت میں)۔ مُتَّجَه: سمت، رخ۔ فی کلِّ مُتَّجَهٍ: سب طرف، چاروں طرف، سب میدانوں میں، ہر پہلو سے۔

وجی ۱۔ وَجِیَ یَوجَی وَجًی الرجلُ: کو نکما پانا۔ أَوجَی اِیجاءً الرجلَ: کو نکما اور بیکار کرنا۔ ـ علیه: سے بخل کرنا۔ ـ الرجلُ: حاجت کے لئے آنا اور ناکام رہنا (کہا جاتا ہے: سَأَلَ حاجةً فَأَوجَی: اس نے حاجت کا سوال کیا اور ناکام رہا)۔ ـ عن کذا: سے اعراض کرنا۔ ـ الشیءَ: کو دور کرنا۔ ـ فلاناً: کو حاجت سے پھیر دینا (کہا جاتا ہے: اَوجاه عنه: اس نے اسے دھتکار دیا)۔ اَوجَیتُ عنکم ظلمَ فلانٍ: میں نے تم سے فلاں کا ظلم رفع کر دیا۔ الوَجِیّ: بے خبر، ناکارہ، بیکار، نکما۔

۲۔ وَجِیَ یَوجَی وَجًی و تَوَجَّی الماشی: چلنے والے کا ننگے پاؤں ہونا یا چلنے سے اس کے پاؤں گھسنا۔ صفت: وَجٍ و وَجِیّ مؤنث وَجِیَة و وَجیاء۔

۳۔ اَوجَی اِیجاءً الرجلَ: کو دینا، عطا کرنا۔

۴۔ الوِجاء: چھوٹی بوری جمع الأوجیة۔

وح ۱۔ وَحْوَحَ: بھاری یا پھٹی ہوئی آواز نکالنا، سخت سردی سے ہاتھ میں پھونک مارنا اور "أح إح" یا "حوحو" کہنا، سانس سے ہاتھ گرم کرنا۔ توحوح الظلیمُ فوق البیض: شتر مرغ کا انڈوں سے محبت کرنا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا۔ الوَحوَح جمع

وَحَاوِح: کم آمیز، تیز دل والا۔ ـــ والوَحْوَاح جمع وَحَاوِح: بھونکا کتا۔

۲۔ الوَحْوَح جمع وَحَاوِح: پھرتیلا، مضبوط، قوی (مرد)۔ الوَحْوَاح جمع وَحَاوِح: قوی۔ ـــ جمع وَحَاوِیح: سردار، سربراہ۔

وحج: وَحِجَ یَوْحَجُ وَحَجًا به: کی پناہ طلب کرنا، کی پناہ لینا۔ اَوْحَجَ ہُ کو: پناہ دینا۔ الوَحَج: پناہ گاہ۔

وحد: وَحَدَ یَحِدُ وَحْدًا و وَحْدَةً و حِدَةً و وُحُودًا و وَحُدَ یَحِد وَحَادَةً و وُحُودَةً: اکیلا ہونا صفت: وحِد۔ وَحَّدَ توحِیداً ہُ: کو ایک بنانا۔ ـــ اللہ تعالیٰ: ایک خدا پر ایمان لانا، خدا کو یکتا کہنا یا لا الہ الا اللہ کہنا۔ اَحَّدَہُ کو ایک بنانا۔ اَوْحَدَ اِیْحَاداً ہُ: کو اکیلا چھوڑنا، کو لاثانی جاننا، کو یکتائے زمانہ سمجھنا۔ ـــ ہُ للأعداء: کو دشمن کے سامنے اکیلا چھوڑ دینا۔ ـــ ت الشاۃ: بکری کا ایک بچہ جننا صفت: مُوحِد۔ تَوَحَّدَ: اکیلا رہنا۔ ـــ ہُ بالفضل: پر مہربانی کرنا، کو دوسرے کے سپرد نہ کرنا۔ ـــ برأیہ: رائے میں تنہا ہونا، منفرد ہونا۔ اِتَّحَدَ الشیئان: دو چیزوں کا ایک ہونا۔ ـــ الشیء بالشیء: ایک چیز کا دوسری سے ملنا، جڑنا۔ ـــ القومُ: لوگوں کا متفق ہونا۔ الواحِد مؤنث واحدہ: ایک تثنیہ: واحِدان جمع وَاحِدون: ایک (چیز یا شخص وغیرہ) (کہا جاتا ہے: ھُو واحدُ قومه: وہ اپنی قوم میں لاثانی ہے) جمع وُحْدان و اُحْدان: لوگوں میں علم وفضیلت وغیرہ میں آگے۔ واحد 'اَحد' کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی یکتا جس کی کوئی نظیر نہ ہو یا اس کے ساتھ کوئی اور نہ ہو اور اسماء حسنہ میں وہ اسی معنی میں آتا ہے کبھی عدد کی صفت بن کر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: الفٌ واحد و عشرةٌ واحدۃ: ایک ہزار، ایک دس۔ الحِدَة: مص: کہا جاتا ہے: بقی علی حِدَتہ: وہ علیحدہ باقی رہا۔ فَعَلَہُ علی ذات حِدَتِہ و من ذات حِدَتہ و من ذی حِدَتہ: اس نے اسے بذات خود اور اپنے رائے سے کیا۔ الوَحْد (مص): اکیلا۔ وحدہ (مص): اکیلا۔ کہا جاتا ہے: رأیتُهُ وَحْدَہ او جاءَ وَحْدَہ: میں نے اسے اکیلا دیکھا، وہ اکیلا آیا (مصدر ہے تثنیہ اور جمع نہیں آتی۔ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ اسم ممکن ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے: جَلَسَ وَحْدَہ و علی وَحْدِہ و علی وَحْدِھما و وَحْدَیْھما و وَحْدِھم: بعض کے نزدیک اضافت صرف اس صورت میں آتی ہے جب کہا جائے: فلانٌ نسیجُ وَحْدِہ: وہ اپنی قسم میں بے مثال ہے۔ مدح کے طور پر اور فلانٌ عُیَیْرُ وَحْدِہ و جُحَیْشُ وَحْدِہ: وہ خود پرست ہے اور وہ خود رائے ہے) ذم کے طور پر۔ رجُلٌ وَحْد: اکیلا آدمی۔ أجیرُ الوَحْد: خاص مزدور۔ الوَحَد والوَحِد مؤنث وَحَدَةٌ و وَحِدَةٌ: تنہا اکیلا۔ الوَحْدَة (مص): تنہائی۔ الوَحْدَةُ الفلکیة (فلك): زمین کی سورج سے اوسط دوری جو ۱۴۹،۵۰۰،۰۰۰ کیلومیٹر ہے۔ الوَحْدانی: اکیلا، تنہا۔ الوَحْدانیة: وحدانیت، اکیلا ہونا۔ وُحَادَ و أُحادَ و مَوْحَدَ: ایک ایک۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا وُحادَ و احادَ و مَوْحَدَ: وہ ایک ایک کر کے آئے۔ مؤنث میں بھی اسی طرح۔ الوَحِید: اکیلا۔ الاِتِّحاد: مرکب جسم۔ الاِتِّحادی: مزدوروں کی یونین کا رکن، سیاسی وحدت سے خاص، سیاسی وحدت کا وفاقی۔ الاِتِّحادِیَة: اتحادی کی صفت، مزدور یونین کا نام۔ الأحَد: اکیلا (کہا جاتا ہے: رجُلٌ احَدٌ: اکیلا مرد)، بے نظیر، بے مثال، لاثانی۔ وصف باری تعالیٰ کے طور پر کہا جاتا ہے: ھو الواحد و ھو الأحد: اس معنی میں باری تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی صفت کے طور پر نہیں آتا۔ اسماء کے عدد کے طور پر کہا جاتا ہے: احدٌ و عشرون و واحدٌ و عشرون: اکیس۔ اور مذکر کیلئے آتا ہے، بعض دفعہ مؤنث کیلئے بھی آ جاتا ہے جیسے: لَسْتُنَّ کأحد من النساء: (اس صورت میں یہ شیٔ کا معنی دیتا ہے) تم عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو۔ احد کا مؤنث إحْدَی ہے اور اکیلا نہیں آتا۔ جیسے: إحْدَی و عِشرون و إحْدَی عشرۃ: ۲۱ اور گیارہ (عورتیں وغیرہ)۔ إحدَی بنات طَبَق: مصیبت، سانپ۔ کہتے ہیں: ھو ابنُ إحْدَاھا: وہ شریف ماں باپ کا ہے (مردوں اور اونٹوں میں سے) ضمیر امہات کے لئے ہے۔ یومُ الأحَد جمع آحاد: اتوار کا دن۔ الأوْحَد: وحدانیت والا۔ اللّٰہُ الأوْحَد: اللہ وحدانیت والا۔ کہا جاتا ہے: ھو اَوْحَدُ اھل زمانِه جمع اُحدان: یعنی وہ اپنے زمانہ کا بے مثال آدمی ہے۔ لستُ فی ھذا الامر بأوْحَدَ: میں اس کام میں اکیلا نہیں ہوں۔ مؤنث کو وَحداء نہیں کہا جاتا ہے۔ التوحید (مص): اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ۔ المُوَحِّد (فا): اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اعتقاد رکھنے والا۔ المُوَحَّد من الحروف: ایک نقطہ والا حرف جیسے: ب۔ المُتَوَحِّد جمع مُتَوَحِّدون: اکیلا۔ المُتَوحِّدون من الرُھبان: اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے جنگلوں اور پہاڑوں میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر رہنے والے راہب۔ المِیحاد جمع مَوَاحِید: اکیلا اکیلا۔

○ وَحَدَ یَحِدُ وَحْدَةً وحِدَةً و وَحْدَ: اکیلا ہونا، منفرد ہونا، بے مثال ہونا، فقید المثال ہونا، عدیم المثال ہونا، یکتا ہونا، واحد ہونا، ایک ہونا، منفرد ہونا، بے نظیر ہونا، بے ہمسر ہونا۔ وَحَّدَ ہ: کو ایک کرنا، متحد کرنا، یکساں کرنا، ہم معیار بنانا، ایک معیار کا بنانا، باضابطہ بنانا، قانون کے مطابق بنانا۔ ـــ بینھم: کے مختلف حصوں کو مربوط کرنا، جوڑنا، ملانا، متحد کرنا، اکٹھا کرنا، ایک دوسرے سے لگانا، یکجا کرنا، کا الحاق یا ادغام کرنا، کو مدغم کرنا، ملحق کرنا، کی آمیزش کرنا، کا انضمام کرنا۔ وَحَّدَ اللّٰہَ: اللہ تعالیٰ کی وحدت کا اعلان کرنا، خدا کے ایک ہونے پر ایمان رکھنا، خدا کو ایک ماننے والا ہونا، موحد ہونا۔ وَحَّدَ الدیونَ: قرضوں کو منظم کرنا، جمع کرنا، کسی سرمایہ میں لگانا۔ تَوَحَّدَ: ایک ہونا، اکیلا ہونا، اپنا آپ ہونا، صرف ایک ہونا، بے مثال ہونا، فقید المثال ہونا، لاثانی ہونا، تنہا ہونا، تنہائی پسند ہونا، عزلت گزیں ہونا، اکیلا رہنا، تنہائی کی زندگی گزارنا۔ ـــ بہ: کو اکیلے اکیلے کرنا، تن تنہا کرنا: ـــ: ایک ہو جانا، متحد ہونا، معیاری ہونا، متفق ہونا، مستحکم ہونا، وحدت یا اتحاد بنانا۔ تَوَحَّدَ برأیہ: رائے رکھنے میں اکیلا ہونا۔ تَوَحَّدَہ بعنایتہ: کو خصوصی توجہ کے لئے چن لینا، کو خصوصی توجہ دینا۔ اِتَّحَدَ: ایک ہونا، وحدت بنانا، متحد ہونا، یکجا ہونا، مستحکم و مضبوط ہونا، مدغم ہونا، کسی اتحاد میں شامل ہونا یا کوئی اتحاد بنانا۔ ـــ ب: سے متحد ہو جانا، سے یکجا ہو جانا۔ ـــ: متفق ہونا، یک دل ہونا، یک آواز ہونا، مل کر کام کرنا، اتفاق کرنا، ایک ساتھ ہونا۔ حِدَۃ: تنہائی، یکتا و تنہا ہونا۔ عَلَی حِدَۃ: اکیلا، اکیلے اکیلے، علیحدہ، علیحدہ علیحدہ، الگ تھلگ۔ کلّ علَی حِدَۃٍ: ہر ایک علیحدہ علیحدہ، ہر ایک فرداً فرداً، الگ الگ۔ وَحْدَہُ مؤنث وَحْدَھَا یا علیَ وَحْدِہ وغیرہ: (وہ) اکیلا، خود۔ جَاءَ وَحْدَہ: وہ اکیلا آیا۔ لا ...... وَحْدَہُ بل: نہ صرف...... بلکہ۔ وَحْدَۃ: ایک ہونا، یک دل ہونا، یکدلی، اتحاد، اکیلا ہونا، اکیلا پن، خلوت، علیحدگی، آزادی، الگ تھلگ ہونا۔ جمع وَحْدَات: فوجی یونٹ، (جہاز کا) عملہ، ایک گروہ، جتھابندی، پلانٹ یونٹ، تنصیب، ایک صنعتی پلانٹ کا ذیلی یونٹ، ماتحت دفتر، شاخ دفتر، ذیلی دفتر (کسی انتظامی ایجنسی کا)۔ وحدات الاشارۃ: مواصلاتی یونٹس (فوج کے)۔ وَحْدَۃُ الزمن: ٹائم یونٹ، وقت کی اکائی۔ وحدۃ طائفیۃ: فرقہ وارانہ گروہ،

مذہبی اقلیت۔ الوَحدَةُ العربیۃ عرب اتحاد، عرب یونین۔ وحدانی ایک، تنہا، یک طرفہ، تنہا، یکتا و تنہا، یگانہ، علیحدہ، انفرادی، منفرد، واحد، بلا شرکت غیرے، مخصوص، خاص الخاص، مفرد، بےمثال، فقید المثال، غیر مساوی، بےنظیر، تن تنہا، چھڑا غیر شادی شدہ۔ وَحدَانِیَۃ اکیلا ہونا، تنہائی، علیحدگی، عزلت، اخفاء، اکیلا پن، ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی، منفرد یا بےمثال ہونا، بےمثلی، لاثانیت۔ وَحِید اکیلا، تنہا، ایک علیحدہ، منفرد، اکادکا، واحد، بلا شرکت غیرے، مخصوص، خاص، خاص الخاص، محدود، اکلوتا، بےمثال، فقید المثال، بےنظیر، غیر مساوی۔ وَحِیدَۃُ اَبَوَیہا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی۔ وَحِیدُ اَبَوَیہِ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ اَوحَد: یکتا، عدیم المثال۔ تَوحِید اتحاد، اتفاق، وحدت، ایکا، پگھلا کر ملانا، ہم معیاری، ہم معیاریت، استحکام، پیوستگی، الحاق، ادغام، انضمام، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، کائنات کی وحدت میں مل جانا (تصوف)۔ توحیدُ الدُّیُون قرضوں کا ادغام۔ توحیدُ الزوجۃ: یک زوجگی۔ توحیدُ الکلمۃ: اتحاد، کامل اتفاق، کامل ہم آہنگی، توانائیوں کو اکٹھا کرنا۔ توحیدُ المنتوجات: صنعتی پیداروں کی ہم معیاری یا ہم معیاریت۔ علم التوحید علم دینیات۔ اِتّحاد ایک ہونا، اکیلا ہونا، اکیلا پن، اتفاق، موافقت، ہم آہنگی، ایکا، میل ملاپ، باہمی رضامندی، یکدلی، تال میل، کامل اتفاق، کامل اتفاق رائے، ادغام، انضمام، معاہدہ، میثاق، رشتہ، ناطہ، تعلق، قرابت، ممالک فملکہ، نیم وفاقی ریاستیں، اتحاد، انجمن، ایسوسی ایشن، یونین، وفاق، کیمیائی مرکب۔ بالاتحاد بلکر، ہم آہنگی سے، مشترکہ کوششوں سے، اکٹھے، مشترکہ طور پر۔ اِتّحادُ الآراء کامل اتفاق رائے، بالاتفاق۔ اتحادُ البریدِ العام: عالمی ڈاک خانوں کی یونین۔ اتحادُ جنوب افریقیۃ جنوبی افریقہ کی یونین۔ اتحاد الدول العربیۃ متحدہ عرب ریاستیں۔ یعنی متحدہ عرب جمہوریہ و یمن۔ اتحاد السوفیت یا الاتحاد السوفیتی سوویت یونین۔ اِتّحادِی: مزدور یونین کا رکن (برطانیہ میں) وفاقی۔ الواحد: ایک خدا۔ واحداً واحداً یا واحداً فواحداً یا واحد بعد واحد یا واحد بعد الآخر ایک ایک کر کے، علیحدہ علیحدہ، یکے بعد دیگرے، پے در پے، ایک وقت میں ایک۔ الواحدُ منہم: ان میں سے ایک، ان میں سے ہر ایک۔ واحد کہذا: اس جیسا، ایسا آدمی، اس جیسا کوئی (ایک)۔ کلُّ واحدٍ: ہر شخص۔ فی موضعٍ واحدٍ ایک ہی جگہ۔ ولا واحد: کوئی ایک بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ زَرَافاتٍ و وُحدانًا: گروہوں میں اور اکیلے اکیلے۔ مُوَحِّد ایک خدا کو ماننے والا، توحید پرست جمع مُوَحِّدون مُوَحَّد: مشترکہ، مستحکم، مدغم، متحد، ہم معیار، باقاعدہ، باضابطہ، یک قطبی (برقیات)، ایک نقطہ والا حرف۔ مُتَوَحِّد: تنہا، شاذ و نادر، غیر معمولی طور پر اچھا، نادر الوقوع، کبھی کبھار کا، گوشہ نشین، تیاگی، تارک الدنیا، زاہد۔ الولایات المتحدۃ یونائٹڈ سٹیٹس، متحدہ ریاستیں۔ الامم المتحدۃ اقوام متحدہ۔ مُستَوحِد: تنہا، الگ تھلگ، اکادکا۔

وحر ا۔ وَحِرَ یَوحَرُ وَحَرًا چھپکلی کی مانند کیڑے کی خراب کردہ خوراک کھانا یا پینا اور اس کے زہر کا کھانے پینے والے پر اثر کرنا۔ ۔ الطعام خوراک کا چھپکلی کی مانند کیڑے سے زہر آلود ہونا یا خوراک میں اس کیڑے کا گر جانا۔ صفت: وَحِر۔ ۔ یَحِرُ و یَوحَرُ و یَیحَرُ وَحَراً علیہ: پر سخت ناراض ہونا، سینہ کا کینے سے بھر جانا۔ صفت: وَحِر۔ اَوحَرَہُ کو ناراض کرنے والی باتیں سنانا۔ ۔ تِ الوَحَرَۃُ الطعامَ: چھپکلی کی طرح کے کیڑے کا خوراک کو تے یا دست آور کرنا۔ الوَحَر کینہ، سخت غصہ، کھوٹ۔ الوَحَر (مص) غصہ، کینہ، سینہ کی سوزشیں۔ الوَحَرَۃ جمع وَحَر (ح): چھپکلی کی مانند ایک زہریلا کیڑا (کہا جاتا ہے کہ کسی چیز پر چلے تو اسے زہریلا کر دیتا ہے)۔

۲۔ الوَحَرَۃ جمع وَحَر پست قد عورت یا اونٹنی۔ امرأۃ وَحَرَۃ بدشکل کالی یا لال رنگ کی پستہ قد عورت۔

وحش: وَحَشَ یَحِشُ وَحشًا و وَحَّشَ بثوبہ او سلاحِہ: تعاقب کے ڈر سے کپڑے یا ہتھیار پھینک دینا۔ اَوحَشَ اِیحاشاً المکانُ: جگہ کا ویران ہونا، اجڑنا۔ ۔ المکانَ جگہ کو خالی یا اجڑا ہوا پانا۔ ۔ الرجُلُ: بھوکا ہونا، کی زادِ راہ ختم ہو جانا۔ ۔ الرجُلَ: کو تنہائی اور وحشت محسوس کرانا۔ تَوَحَّشَ کپڑے پھینک دینا، بھوک سے خالی پیٹ ہونا، وحشی کی مانند ہونا۔ ۔ المکانُ مکان کا ویران ہونا، اجڑنا۔ اِستَوحَشَ: وحشت محسوس کرنا، کسی سے مانوس نہ ہونا، وحشت پانا (کہا جاتا ہے: اذا اَقبَلَ اللیلُ اِستَأنَسَ کلُّ وَحشیٍّ وانسیٍّ: جب رات آتی ہے تو ہر وحشی جانور مانوسیت محسوس کرتا ہے اور ہر انسان وحشت محسوس کرتا ہے)۔ ۔ منہ: سے مانوس نہ ہونا۔ ۔ المکانُ: مکان کا ویران و اجاڑ ہونا۔ ۔ لِ: کی جدائی کی وجہ سے وحشت محسوس کرنا۔ الوَحش (مص) جمع وُحُوش و وُحشان (واحد: وحشی) جنگلی جانور۔ حمارُ وَحشٍ و حمارٌ وَحشیٌّ جنگلی گدھا۔ بَقَرُ الوَحشِ جنگلی گائے، نیل گائے۔ مکانٌ وَحشٌ اجاڑ، سنسان، غیر آباد جگہ یا علاقہ۔ کہا جاتا ہے: مشی فی الأرض وَحشًا وہ تنہا گیا۔ باتَ وَحشًا اس نے بھوکے پیٹ رات گزاری۔ باتوا وهم اَوحاش انہوں نے بھوکے پیٹ رات گزاری۔ هُوَ مِن وَحشِ الناس وہ رذیل لوگوں میں سے ہے۔ الوَحشَۃ: خلوت، خوف یا تنہائی کی وجہ سے طبیعت کا انقباض، غم، علیحدگی، دل کی محبت سے دوری، ویران زمین۔ الوَحشان جمع وَحاشَی: اُداس۔ الوَحشِیّ وَحش کا واحد، لوگوں سے الگ رہنے والا، ہر چیز کا دایاں پہلو، بعض کے نزدیک جانور کا وہ پہلو جس سے سوار ہوا جائے یا دودھ دوہا جائے۔ ۔ من التین و نحوہ جنگلی انجیر۔ ۔ من القوس: کمان کی پیٹھ۔ الوَحشِیَّۃ: وَحشِی کا مؤنث: تیز ہوا۔ الوَحِیش جنگلی جانور۔ الجانِبُ الوَحِیش: جانور کا وہ پہلو جس کی طرف سے سوار ہوا جاتا ہے یا دودھ دوہا جاتا ہے۔ اَرضٌ مَوحُوشَۃ جنگلی جانور والی یا بہت جنگلی جانوروں والی زمین۔

(ب) اَوحَشَ ہُ: کو تکلیف دینا، ستانا، بے چین کرنا، پر تشویش کرنا، کو تنہائی کا احساس دلانا، کو تنہا کرنا، اداس کرنا، کو اپنی غیر حاضری سے رنجیدہ کرنا۔ تَوَحَّشَ: بہیمانہ یا سفاکانہ ہونا یا ہو جانا، جنگلی ہونا یا بن جانا، کا وحشی ہونا یا ہو جانا۔ اِستَوحَشَ: ویران، اجاڑ، سنسان یا بنجر ہونا، تنہا محسوس کرنا۔ ۔ ل: کی جدائی سے غمگین ہونا، اداس ہونا، رنجیدہ یا مغموم ہونا، کی کمی بری طرح محسوس کرنا۔ ۔ مِن: سے نفرت یا بیزاری رکھنا، سے ناپسندیدگی یا کراہت محسوس کرنا، سے گھن کرنا، سے پیار کرنے یا سے راضی ہونے میں ناکام ہونا، کے لئے کوئی خاص پسند محسوس نہ کرنا۔ ۔ خوف زدہ ہونا، کھچے کھچے رہنا، بیگانہ و برگشتہ ہونا۔ الوُحوشُ الضاریۃ: غارت گر جانور، شکاری جانور۔ وَحشَۃ تنہائی، سونا پن، غم زدگی، بےکسی، مایوسی، یاسیت، ویرانی، اداسی، دل شکستگی، سرد مہری، بےکیفی، اجنبیت، غم و الم، حزن و ملال، رنجش، کشیدگی، بیگانگی۔ وَحشی: ناپالتو، جنگلی، گاؤدی، گھامڑ، ظالم، جابر، وحشی، غیر متمدن، غیر مہذب، بدشکل، کریہ، گھناؤنا، نفرت انگیز۔ الکعبُ الوحشی: ٹخنہ کی بیرونی ہڈی۔ مُوحِش: اجاڑ، سنسان، غیر آباد، تن تنہا، مایوس، اکیلا، یکہ و تنہا،

ستایا ہوا، بے چین، پریشان پراسرار۔

وحف: ۱۔ وَحَفَ یَحِفُ وَحْفًا البعیرُ او الرجُلُ: اونٹ یا آدمی کا زمین پر گر پڑنا، بیٹھ جانا۔ وَحَّفَ: زمین پر گرنا۔ — فُلانًا: کو لاٹھی سے مارنا۔ الوَحْفَة جمع وِحَاف: وحف کا اسم مرۃ۔ المَوْحِف جمع مَوَاحِف: اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ المِیحافُ من النوق جمع مَوَاحِیف: اپنے تھان پر رہنے والی اونٹنی۔

۲۔ وَحَفَ یَحِفُ وُحُفًا منه: کے قریب ہونا۔ — الیه: کا قصد کرنا۔ — الی کذا: کی طرف جلدی جانا۔ وَحَّفَ: جلدی کرنا۔ اَوْحَفَ ایحافًا: جلدی کرنا۔

۳۔ وَحِفَ یَوْحَفُ وَحَفًا و وَحُفَ یَوْحُفُ وَحَافَةً و وُحُوفَةً الشعرُ او النباتُ: بالوں کا یا نباتات کا گھنا ہونا۔ الواحِفُ مِن الأَجْنِحَةِ: گنجان بالوں والا بازو۔ الوَحْفُ (مص): کالے سیاہ خوبصورت گھنے بال، تازہ گھاس۔ — من الأَجْنِحَةِ: گھنے پروں والا بازو۔ عشبٌ وَحْفٌ: بہت گنجان اور سیاہ گھاس۔ الوَحَف: خوبصورت گھنے بال۔ الوَحْفَة جمع وِحَاف: سیاہ پتھر، کالی اونچی گول زمین۔ الوَحْفَاء جمع وَحَافَی من الأراضی: سیاہ پتھروں والی زمین جو گرم نہ ہو۔

۴۔ الوَحْفَة جمع وِحَاف: آواز۔ الوَحْفَاء جمع وَحَافَی من الاراضی: سرخ زمین۔ بعیرٌ مُوَحَّفٌ: لاغر اونٹ۔

(ت) وَحْف: بہ افراط اگنے والے سیاہ بال۔

وحل: ۱۔ وَحِلَ یَوْحَلُ وَحَلًا و مَوْحَلًا: کیچڑ میں پڑنا، گرنا۔ وَاحَلَ مُوَاحَلَةً ہُ: سے کیچڑ میں گرنے یا پڑنے کا مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَاحَلَہُ فَوَحَلَہ: اس نے اس سے کیچڑ میں پڑنے کا مقابلہ کیا اور غالب آیا۔ اَوْحَلَ ہُ: کو کیچڑ میں گرانا۔ — ہُ شرًا: کو برائی میں پھنسانا۔ تَوَحَّلَ: کیچڑ میں لتھڑنا۔ — واستَوْحَلَ المکانُ: جگہ کا کیچڑ والی ہونا۔ الوَحْل: کیچڑ (ردی لفظ) الوَحَل جمع اَوْحَال و وُحُول: کیچڑ۔ الوَحِل: کیچڑ میں لتھڑا ہوا۔ المَوْحِل: کیچڑ والی جگہ، کیچڑ میں گرنا (وحل کا اسم)۔

۲۔ اِتَّحَلَ اِیْتِحَالًا فی یمینِهٖ: شرطیہ قسم کھانا، قسم میں استثناء کرنا۔ جیسے کہے: واللّٰہِ افعل ذلك ان شاءَ اللّٰہُ تعالٰی: خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔

(ت) وَحِلَ یَوْحَلُ وَحَلًا: دلدل میں پھنسنا، کیچڑ میں پھنسنا، پھنسنا، یکتا و تنہا یا بے یار و مددگار رہنا، بند گلی میں آجانا، مشکل میں ہونا۔ وَحَّلَ ہُ: کو کیچڑ سے گندا کرنا، لتھیڑنا، کو کیچڑ سے خراب کرنا۔ — زمین کا کیچڑ والا ہو جانا، کیچڑ سے بھرا ہوا یا لتھڑا ہوا ہو جانا، گندا یا غلیظ ہو جانا۔ اَوْحَلَ ہُ: کو دلدل میں پھنسانا، کیچڑ میں آلودہ کرنا، کیچڑ میں پھنسانا، مصیبت میں پھنسانا، کو کیچڑ میں گرانا۔ تَوَحَّلَ: گندا ہونا یا ہو جانا، کیچڑ والا ہونا یا ہو جانا، کیچڑ میں لت پت ہونا یا ہو جانا۔ اِسْتَوْحَلَ: بمعنی تَوَحَّلَ۔ وَحْل و وَحَل جمع وُحُول و اَوْحَال: کیچڑ، دلدل، غلاظت، دلدلی زمین، دھنسن۔ وَحِل: کیچڑ سے بھرا یا لتھڑا ہوا، گندہ، غلیظ، کیچڑ میں لت پت، دلدلی۔ مَوْحِل: کیچڑ والی زمین، کیچڑ پانی والی جگہ، مشکل، پریشانی، ناگوار صورت حال، خطرناک صورت۔ مُوَحَّل: کیچڑ والا، گدلا، کیچڑ میں لت پت، یا ڈھکا ہوا، میلا، گندہ، غلیظ، کیچڑ سے بھرا ہوا۔

وحم: ۱۔ وَحِمَ یَحِمُ و یَوْحَمُ وَحَمًا الشیءَ: کی خواہش کرنا۔ — ت المرأۃُ: حاملہ عورت کا بعض چیزوں کے کھانے کا خواہش مند ہونا، اس کی خواہش کا بدلنا یا کھانے کی خواہش کم ہونا صفت: وَحْمَی جمع وِحَام وَحَامَی۔ وَحْمَی و لاحَبَل: یہ مثل اس لالچی شخص کے لئے بولتے ہیں جو بغیر ضرورت و حاجت کے سوال کرنے کا بہت عادی ہو۔ وَحَمْتُ وَحْمَہٗ: میں نے اس کا قصد کیا۔ وَحَّمَ الحُبْلَی: حاملہ کو اس کی خواہش کی چیزیں کھلانا۔ — لَهَا: حاملہ کی خواہش کے مطابق کوئی جانور ذبح کرنا یا اس کی خواہش کی چیز پیش کرنا۔ تَوَحَّمَتِ المرأۃُ: بمعنی وَحِمَتْ۔ الوَحَم (مص): حاملہ عورت کی خواہش۔ الوِحَام و الوَحام: حاملہ کی خواہش۔

۲۔ الوَحْم: پرندے کے اڑنے کی آواز۔ لیلةٌ ذاتُ وَحَمٍ: بہت گرم رات۔ الوَحِیم: سخت گرم دن۔

(ت) وَحِمَ یَحِمُ و یَوْحَمُ وَحَمًا ہ: کی بھوک محسوس کرنا۔ — ہ: کی سخت آرزو یا کی خواہش محسوس کرنا، کی طلب محسوس کرنا۔ وَحَم: حمل کے دوران کسی خوراک کی طلب، اشتہا، بھوک، خواہش، ارزو، سرگرم خواہش۔ وَحَام و وِحَام: بمعنی وَحَم۔ وَحْمَی جمع وِحَام و وَحَامَی: حاملہ کی کسی خاص خوراک کی طلب۔

وحن: وَحَنَ یَحِنُ و وَحِنَ یَوْحَنُ وَحَنًا و حِنَةً علی فلان: سے کینہ رکھنا۔ تَوَحَّنَ: ذلیل ہونا، ہلاک ہونا، بڑے پیٹ والا ہونا۔ الوَحْنَة: ایک بار، پھسلانے والی کیچڑ۔

(ت) وَحْوَحَ وَحْوَحَةً من: سے یا کے ساتھ، کانپنا، لرزنا، تھرانا، لڑکھڑانا، رعشہ طاری ہونا، کپکپانا، تھرتھرانا، سرسرانا، وحشت ہونا۔

وحی: ۱۔ وَحَی یَحِی وَحْیًا اِلی فلان: کو اشارہ کرنا، کی طرف پیغام بر بھیجنا۔ — الیه او وَحَی الیه کلامًا: سے پوشیدہ بات کہنا، سے مخفی طور پر باتیں کرنا۔ — اللّٰہ فی قلبه کذا: خدا کا کسی کے دل میں کچھ ڈالنا۔ — الکتابَ: کتاب لکھنا۔ اَوْحَی اِیْحَاءً اِلی فلان: کو اشارہ کرنا، سے دوسروں سے چھپا کر بات کرنا، کو برانگیختہ کرنا۔ — القومَ: چلانا۔ — اللّٰہ الیه بکذا: کو کا الہام کرنا۔ — الکتابَ: کتاب لکھنا۔ — نفسَهٗ: کے دل میں خوف واقع ہونا۔ اِسْتَوْحَی ہُ: کو پکارنا۔ — ہُ الشیءَ: سے کچھ پوچھنا۔ الوَاحِی جمع وَاحُون و وحاۃ (فا)۔ الوَحْی (مص): الہام، انبیاء کی وحی، الہام کردہ بات، لکھا ہوا، پیغام۔ — والوَحَاۃ: آواز۔ الوَحَی جمع وُحِیّ: آواز۔

۲۔ وَحَی یَحِی وَحْیًا الذبیحةَ: جانور کو جلد ذبح کرنا۔ — وَحْیًا و وَحِیًّا و وَحَاءً: جلدی کرنا۔ وَحَّی تَوْحِیَةً ذبیحتَهٗ: ذبیحہ کو جلد ذبح کرنا۔ — ہُ: کو جلدی کرانا۔ کہا جاتا ہے: وَحَّی الدواءُ الموتَ: دوا کا موت کو جلدی واقع کرنا۔ اَوْحَی اِیْحَاءً العملَ: کام میں جلدی کرنا۔ — الدواءُ الموتَ: دواء کا موت کو جلدی واقع کرنا۔ تَوَحَّی: جلدی کرنا۔ تَوَاحَی تَوَاحِیًا القومُ: ایک دوسرے کو جلدی کرانا۔ اِسْتَوْحَاہُ: کو جلدی کرانا۔ الوَحَی جمع وُحِیّ: جلدی، عجلت۔ کہا جاتا ہے: الوَحَی الوَحَی اور الوَحَاكَ الوَحَاكَ: جلدی کرو، جلدی کرو۔ الوَحِیُّ: بہت جلدی۔ کہا جاتا ہے: موتٌ وَحِیٌّ: جلدی کی موت۔ ذکاۃٌ وحِیَّةٌ لاَوْحَی: زیادہ جلد، زیادہ تیز۔ کہا جاتا ہے: القتل بالسیف اَوْحَی: تلوار سے قتل زیادہ تیز یا جلد ہوتا ہے۔

۳۔ اَوْحَی ایحاءً الرجُلُ: محتاجی کے بعد بادشاہ ہونا۔ الوَحَی جمع وُحِیّ: آگ، بادشاہ، بڑا سردار۔

(ت) وَحَی یَحِی وَحْیًا اِلی ب: کے دل میں کوئی بات ڈالنا، کو کا فیضان کرنا، کو کی وحی کرنا، کو کام الہام کرنا، کو کا القاء کرنا۔ اَوْحَی اِلی ب: کے دل میں کوئی بات ڈالنا، کو کا فیضان کرنا، کو کی وحی کرنا (خدا تعالیٰ کا)۔ — من: کا خیال دینا، کا تاثر دینا۔ — اَن: تجویز پیش کرنا کہ، کی تجویز پیش کرنا، کا خیال دلانا، کا ایما ظاہر کرنا، تاثر پیدا کرنا کہ، گویا کہ۔ اَوْحَی اِلَیَّ: میرے دل میں آیا، مجھے خیال آیا، میں نے سوچا۔ اِسْتَوْحَی ہ: کا

مشورہ طلب کرنا، کی رائے پوچھنا، سے مشورہ کرنا۔ — ہ ہ: دل میں بات کی طرف سے ڈالی جانا، کسی بات میں (نیک خیال، الہام القاء، تخلیقی تحریک) کسی سے طلب کرنا۔ — ہ من: کچھ کسی سے حاصل کرنا، کو سے استخراج کرنا، استنباط کرنا، کسی بات کا سے نتیجہ نکالنا یا اخذ کرنا۔ استوحی الفکرۃَ: خیال سے رہنمائی حاصل کرنا۔ استوحی موعظۃً من: سے سبق لینا۔ وَحْـی: تخلیقی تحریک، نیک خیال، وحی، الہام، القاء، ایحاء، اشارہ، ایہام، ایما۔ ایحاءٌ ذاتیٌّ: خود ایمائی۔ واحٍ: ریڈیو ٹرانسمیٹر۔ الواحی: ریڈیو۔ مُوحٍ: دل میں القاء کرنے والا، وحی کرنے والا۔ مُوحیً جمع مُوحَیات: تخلیقی تحریک، نیک خیال، وحی، الہام، القاء۔ مُسْتَوحیً من: کی طرف سے اثر ڈالا ہوا، اثر انداز، نیک خیالی، تخلیقی تحریک ڈالا ہوا، الہام القاء کیا ہوا، سے نتیجہ اخذ کیا ہوا، استخراج یا استنباط کیا ہوا۔

وخد: وَخَدَ یَخِدُ وَخْداً و وَخِیداً و وَخَدَاناً البعیرُ: اونٹ کا تیز دوڑنا، شترمرغ کی طرح لمبے قدم ڈالنا۔ صفت: واخِد و وَخُود و وَخّاد۔ الوَخْد جمع وُخُود: اونٹ کی تیز دوڑ۔

وخز: وَخَزَ یَخِزُ وَخْزاً ہ: کو سوئی یا نیزہ وغیرہ چبھونا۔ — ہ الشیبُ: کے سر میں سفید بال ظاہر ہونا۔ سر کے بالوں کا کھچڑی ہونا۔ — فلانٌ: شہد کا ثرید بنانا۔ الوَخْز (مص): ہر چیز کی تھوڑی مقدار۔ کہا جاتا ہے: جاءُوا وَخْزاً وَخْزاً: وہ چار چار کر کے آئے۔ الوَخِیز: شہد کا ثرید۔

○ وَخَزَ یَخِزُ وَخْزاً ہ: کو ڈنک مارنا، میں چبھن پیدا کرنا، کو چبھونا، کو چیر کر، چھید کر یا چاقو وغیرہ گھونپ کر مارنا، کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، دق کرنا، کا ناک میں دم کرنا کو ستانا، زچ کرنا۔ وَخْزَۃ: ڈنک، چھید، چبھن، ٹیس۔ وَخْز: ڈنک مارنا، چبھونا، مقامی تیز تکلیف ٹیسیں۔ وخزُ الضمیر: پشیمانیاں، ندامتیں، ندامت یا پشیمانی کی ٹیسیں۔ وَخَزان: مارے طعنوں کے ناک میں دم کرنا، ہر وقت جھاڑ جھپاڑ کرتے رہنا۔ وَخّاز: ڈنک مارنے والا، چبھونے والا، دانت سے کاٹنے والا تیز، چبھتا ہوا، درد کرنے والا سخت، شدید تشدد آمیز۔ واخِز: بمعنی وَخّاز۔

وخش: وَخُشَ یَوْخُشُ وُخُوشَۃً و وَخاشَۃً و وُخُوشاً الشیءُ: رذیل وردی اور نکما ہونا۔ — رأسُ الکبشِ: مینڈھے کے سر کا سوکھنا و سکڑنا۔ وَخّشَ العطیۃَ: بخشش کم دینا۔ — الشیءَ: کو نکما اور ردّی کرنا۔ اَوْخَشَ الشیءَ: کو خلط ملط کرنا۔ — لہ بالعطیۃ: کو عطیہ کم دینا۔ — فی عرضہ: کی بے عزتی کرنا۔ الوَخْش: ہر ردی چیز، کمینے رذیل لوگ (مفرد جمع مذکر اور مونث میں یکساں مستعمل) کبھی جمع وِخاش اور اَوْخاش بھی آجاتی ہے۔ — عند العامۃ: کھردرا۔

وخص: وَخَصَ یَخِصُ وُخُوصاً: حرکت کرنا۔ اَوْخَصَ اِیخاصاً فلانٌ لی بعطیۃ: (فلاں کا مجھے تھوڑا عطیہ دینا۔)

وخض: وَخَضَ یَخِضُ وَخْضًا فلاناً بالرمح: کو نیزہ چبھونا۔ — ہُ الشیبُ: بڑھاپے کا سر میں سفیدی ظاہر کرنا۔ بڑھاپے کا سر کے بالوں کو کھچڑی کر دینا۔ الوَخِیض: نیزہ زدہ۔

وخط: ۱۔ وَخَطَ یَخِطُ وَخْطًا فلاناً بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ — ہُ بالسیف: کو دور سے تلوار سے چنا لینا۔ الوَخّاط: تیز اور کشادہ قدموں سے چلنے والا شترمرغ یا اونٹ۔ طعنٌ او رمحٌ وَخّاط: پار ہونے والا نیزہ۔ المِیخَط: داخل ہونے والا۔
۲۔ وَخَطَ یَخِطُ وَخْطاً ہُ الشیبُ: کے سر کے بالوں کا کھچڑی ہونا۔ — فی البیع: تجارت میں کبھی نفع اور کبھی نقصان اٹھانا۔ وُخِطَ: سر کے بالوں کا کھچڑی ہونا۔

○ وَخَطَ یَخِطُ و خَطاۃً: عمر کا کے بالوں کو کھچڑی کرنا۔

وخف: ۱۔ وَخَفَ یَخِفُ وَخْفا السویقَ: ستو کو پانی ڈال کر لیسدار کرنا، گوندھنا۔ — السویقُ: ستو کا لیس دار ہونا۔ — الرجلَ: کو برائی سے یاد کرنا۔ وَخّفَ و اَوْخَفَ السویقَ: ستو کو کچھ پانی ڈال کر گوندھنا اور لیس دار کرنا۔ انہُ لَیُوخِفُ فی الطین: یہ ضرب المثل اس بیوقوف کے بارے میں بولی جاتی ہے جو خود اپنی بات کو نہ سمجھے۔ الوَخِیفۃ: ایک بار، چمڑے کا تھیلا۔ الوَخِیفۃ: گندھا ہوا ستو وغیرہ۔ المُوخِف: بے وقوف۔ المِیخَف: ستو بھگونے کا برتن۔
۲۔ اِتّخَفَتْ رِجْلُہُ: کا پاؤں پھسلنا۔

وخم: وَخَمَ یَخِمُ وَخَماۃً: سے زیادہ بدہضمی والا ہونا۔ وَخِمَ یَوْخَمُ وَخَماً و اِتّخَمَ من کذا و عنہ: سے بدہضمی ہونا۔ وَخُمَ یَوْخُمُ وَخامۃً و وُخُومۃً و وَخُوماً المکانُ او الطعامُ: کسی جگہ کا مضر صحت ہونا یا کھانے کا ناقابل ہضم ہونا۔ وَخّمَ الشیءَ: کو مضر صحت بنانا۔ واخَمَ مُواخَمۃً ہُ فوخمہُ: سے بدہضمی میں مقابلہ کرنا اور اس پر غالب آنا (یعنی زیادہ بدہضمی والا ہونا)۔ اِتّخمَ اِتّخاماً ہُ الطعامُ: کو کھانے کا بدہضمی میں مبتلا کرنا۔ (اصل میں اَوْخَمَہُ ہے لیکن اصل کا استعمال نادر ہے)۔ تَوَخّمَ الطعامَ: کھانے کو مضر صحت سمجھنا۔ اِسْتَوْخَمَ الطعامَ: کھانے کو مضر صحت سمجھنا۔ — المکانَ: جگہ کی آب و ہوا کا اس کے لئے موافق نہ ہونا، جگہ کو مضر صحت پانا۔ الوَخْم جمع اَوْخام مِن الرجال: ست آدمی۔ الوَخِم جمع اَوْخام من الرجال: ست آدمی۔ شیءٌ وَخِمٌ: وبازدہ چیز۔ الوَخَمَ (طب): بواسیر کی مانند ایک بیماری، ہوا کا متعفن ہونا جس سے وبا پھیلے، ضرر سے استعارہ ہے۔ — عند العامۃ: پست زمین سے کنایہ ہے۔ ارضٌ وَخْمَۃٌ و وَخِمَۃٌ و وَخام: مضر صحت گھاس والی زمین، وباء سے متاثر زمین۔ الوَخُوم من الرجال جمع وَخامَی و وِخام: کثیف، بھاری آدمی۔ ارضٌ وَخُوم: مضر صحت گھاس والی زمین، وباء سے متاثر زمین۔ الوَخِیم من الرجال جمع وَخامَی و وِخام: کثیف، ثقیل آدمی۔ بَلَدٌ وَخِیمٌ: رہائش کے لئے ناموافق شہر۔ شیءٌ وَخِیمٌ: وباء زدہ چیز۔ امرٌ وخیمُ العاقبۃ: بدانجام کام۔ ارضٌ وَخِیمَۃ: مضر صحت گھاس والی زمین، وباء سے متاثر زمین۔ التُخَمَۃ جمع تُخَمات و تُخَم: بدہضمی (اصل میں وُخَمَۃ ہے)۔ ارضٌ مَوْخِمَۃ و مَوْخَمَۃ و مُوخِمَۃ: مضر صحت گھاس والی زمین، وباء سے متاثر زمین۔ کہا جاتا ہے: ھذا الطعام مَتْخَمۃ: اس کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے (اصل میں مَوْخَمَۃ ہے)۔

○ وَخُمَ یَوْخُمُ وَخامۃً: (ہوا، آب و ہوا کا) مضر صحت ہونا، ناخوشگوار، بھاری، اور ناقابل ہضم ہونا۔ وَخِمَ یَوْخَمُ وَخَماً: بدہضمی ہونا، بدہضمی میں مبتلا ہونا۔ اِتّخَمَ: بدہضمی میں مبتلا ہونا۔ تُخَمَۃ جمع تُخَمات و تُخَم: پرخوری، پرخوری کے باعث گرانی، بدہضمی، گڑبڑ والا پیٹ۔ وَخَم: مضر صحت ہوا، گندگی، غلاظت۔ وُخِم: مضر صحت، ناخوش گوار، بھاری، ناقابل ہضم، گندہ، غلیظ، گھناؤنا۔ وَخِیم: مضر صحت، ناقابل ہضم، برا، بد، خطرناک، مہلک، مصیبت خیز، آفت خیز۔ وَخِیمُ العاقبۃ: برے انجام والا۔ وَخامۃ: مضر صحت ہونا، ناخوش گوار ہونا، بری خصلت۔ اَوْخَم: زیادہ مضر صحت، زیادہ خراب۔ مُسْتَوْخَم: ناقابل ہضم، ناخوش گوار۔ مَجازٌ مُسْتَوْخَم: بے لطف یا بدذوق کنایہ، استعارہ، مجاز یا تشبیہ۔

وخن: تَوَخَّنَ ارادہ کرنا (اچھائی یا برائی کا)۔ الوَخْنَة فساد۔

وخی ا۔ وَخَی یَخِی وَخْیًا الامرَ کام کا قصد کرنا۔ ـت الناقةُ اونٹنی کا درمیانی چال چلنا۔ وَخَی وَخْیَه اس نے اس کا قصد کیا۔ ما ادری این وَخَی میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔ وَخَّیَ الامرَ کو اکیلے طلب کرنا۔ ـ ہ للامر کو کسی کام کے لئے بھیجنا۔ تَوَخَّی تَوَخِّیًا و تَأَخَّی تَأَخِّیًا الامرَ کا قصد کرنا، کو طلب کرنا۔ اِسْتَوْخَی القومَ سے خبر دریافت کرنا۔ الوَخْی (مص) جمع وُخِیّ و وِخِیّ: قصد، ارادہ، قابل اعتماد راستہ۔ ارادہ کرنے والا۔ الوَخَی و الوِخْیَة قصد، ارادہ۔

۲۔ وَاخَی مُوَاخَاةً فلانًا سے بھائی چارہ کرنا (آخاہ کے مقابل کمزور لغت ہے)۔

٭ وَخَی یَخِی وَخْیًا ہ کا ارادہ کرنا، کی غرض ہونا، کوئی کرنے کا ارادہ ہونا، کو کرنے کی غرض ہونا، کو پیش نظر رکھنا، کا مقصد یا نصب العین ہونا، کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا، پر تلا ہونا۔ وَخَّی (بمعنی وَخَی۔) ـ ہ کی رہنمائی کرنا۔ تَوَخَّی ہ کا ارادہ کرنا، کو کرنے کا ارادہ کرنا، کو پیش نظر رکھنا، نصب العین ہونا، کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا، کے لئے جدوجہد کرنا، پر تلا ہونا، کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہونا۔ تَوَخَّی طریقةً: کسی طریقہ پر عمل کرنا، کو با اصول یا باقاعدہ طور پر کرتے رہنا۔ تَوَخَّی غایةً: ذہن میں ایک مقصد رکھنا، کسی مقصد کو کرتے رہنا۔ وَخْی جمع وُخِیّ و وخی: ارادہ، مقصد، منصوبہ۔ تَوَخٍّ: مقصد، منصوبہ، منشا، مطلب، نیت مراد۔

وَدَّ یَوَدُّ وَدًّا و وُدًّا و وِدًّا و وَدَادًا و وُدَادًا و وِدَادًا و وَدَادَةً و مَوَدَّةً و مَوْدِدَةً و مَوْدُودَةً ہ: سے محبت کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَدِدْتُ لو کان کذا و لو انك فَعَلْتَ کذا: میری تمنا ہے کہ ایسا ہوتا یا تم ایسا کرتے۔ اس جگہ ''لو'' موصول حرفی ہے۔ وَادَّ وِدَادًا و مُوَادَّةً ہ: کو دوست بنانا، کا دوست بننا۔ تَوَدَّدَہُ: کی دوستی چاہنا، کی دوستی حاصل کرنا۔ ـ الیہ: سے دوستی کرنا۔ تَوَادَّ الرجلان: ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ الوَدّ و الوِدّ و الوُدّ محبت (کہا جاتا ہے: بِوُدّی اَن یکون کذا: میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو۔ بِدِی افعل کذا: عام لوگ کہتے ہیں: میں ایسا کرنا چاہتا ہوں)۔ ــ جمع اَوْدَاد و اَوُدّ و اَوِدّ: محبت کرنے والا یا بہت محبت کرنے والا۔ کہا جاتا ہے: هو وُدُّكَ و هم اَوْدَادُك وہ تجھ کو چاہنے والا ہے وہ تجھے چاہنے والے ہیں۔ الوَدّ (بتثلیث الواو) اسم جمع کے طور پر بھی آتا ہے، محبین کے معنی میں۔ جیسے: قومٌ وَدّ (محبت کرنے والے لوگ)۔ الوَدُود بہت محبت کرنے والا، محبوب۔ آپ کہتے ہیں: هو وَدُود و هِيَ وَدُود۔ الوَدِید جمع اَوِدَّة و اَوِدَّاء محبت کرنے والا۔ الودید اسم جمع بھی آتا ہے بمعنی محبین۔ الاَوَدّ جمع الاَوَدُّون اسم تفضیل۔ المَوَدّ: بہت محبت کرنے والا۔

٭ وَدَّ (متکلم وَدِدْتُ)۔ وَدًّا و وُدًّا و وِدًّا و وَدَادًا و وُدَادًا و مَوَدَّةً ہ/ہ: سے محبت کرنا، کو پسند کرنا، کا شائق ہونا۔ ــ ہ/أن/لو/لو ان: میں چاہتا ہوں یا میری خواہش ہے کہ وہ (چیز وغیرہ) ہو۔ اَوَدُّ اَن یفعلَ ذلك: میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کرے۔ کما یوَدُّ: جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے۔ وددتُ لو کان غنیا: میری تمنا ہے کہ وہ امیر ہوتا۔ وَدَّ نفسَهُ بعیدا عن: کسی کا خواہش کرنا کہ وہ سے بہت دور ہو جائے۔ وَادَّہُ: کو دوست بنانا، کا دوست بن جانا۔ تَوَدَّدَ ل/الی: سے محبت ظاہر کرنا، سے شفقت چاہ یا لگن کا مظاہرہ کرنا۔ ــ الی کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کی دوستی کا طالب ہونا، کی خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا۔ ـ ہ کو موہنا، لبھانا، رجھانا، گرویدہ کرنا، فریفتہ کرنا، کی محبت یا دوستی جیت لینا۔ تَوَادَّ ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کا دوست ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ مراسم ہونا۔ وَدّ و وِدّ و وُدّ: محبت، شفقت، چاہ، لگن، پیار، دوستی، میل جول، ارتباط، خواہش، آرزو، تمنا۔ کان بودِّنا لو: ہمیں خوشی ہوگی اگر۔ ـ جمع اَوْدَاد و اَوُدّ و اَوِدّ: محبت کرنے والا، پیارا، محب، محبت آمیز، شائق، عاشق، لگاؤ رکھنے والا، جاں نثار، وفادار، وفا شعار، وقف وفا۔ وَدِّی و وِدِّی و وُدِّی: دوستانہ۔ وَدَاد و وِدَاد و وُدَاد: محبت، دوستی۔ وَدَادِی: دوستانہ، دوست کا۔ وَدُود لطف و کرم سے مددگار، لگاؤ رکھنے والا، وفاشعار، دوستانہ۔ وَدِید: بمعنی وَدُود۔ مَوَدَّة: محبت، دوستی۔ تَوَادّ: دوستانہ تعلقات، اچھے مراسم۔

ودأ: وَدَأَ یَدَأُ وَدْأً الشیءَ: کو ہموار کرنا، برابر کرنا۔ ــ بالقوم: سے بدسلوکی کرنا۔ وَدِیءَ یَوْدَأُ وَدْأً: منقطع ہونا۔ کہا جاتا ہے: وَدِئَتِ الاخبارُ عنه: خبریں اسے منقطع ہو گئیں۔ وَدَّأَ تَوْدِیئًا و تَوْدِئَةً علیه الارضَ: زمین کو کسی پر ہموار کرنا، کو دفن کرنا۔ ـ علیه و بہ: کو ہلاک کرنا۔ ـ تہ الارضُ: زمین کا کسی کو چھپا لینا۔ تَوَدَّأَ علیه کو ہلاک کرنا۔ ــ ت علیه الارضُ: کے اوپر زمین کا گر کر اس طرح ہموار ہو جانا جیسے مردہ پر ہموار ہو جاتی ہے۔ ــ ت علیه و عنه الأخبارُ: پر خبروں کا آنا بند ہو جانا۔ ــ الرجلُ: مرنا۔ ــ فلانٌ علی مالِهِ: مال لینا اور جمع کرنا۔ الوَدْأ (مص) ہلاکت۔ التَوْدِئة (مص) دفن (کرنا)۔ المُوَدَّأة: ہلاکت، بے آب ریگستان، میت کا گڑھا یا قبر۔

ودب: الوَدَب: زبوں حالی، بدحالی۔ هو علی وَدَبٍ: وہ بری حالت میں ہے۔

ودج: وَدَجَ یَدِجُ وَدْجًا و وَدَجَ الدابةَ جانور کی گردن کی رگ کاٹنا۔ ــ بین القوم قوم کے معاملات کی اصلاح کرنا اور شر و فساد دور کرنا۔ وَادَجَ مُوَادَجَةً ہُ: سے صلح کرنا، نرمی و آشتی سے پیش آنا۔ الوَدَج جمع اَوْدَاج (ع ا): گردن کی رگ جو غصہ میں پھول جاتی ہے اور وہ رگ جو ذبح کے وقت کاٹی جاتی ہے، وسیلہ، سبب۔ کہا جاتا ہے: کان فلانٌ وَدَجِی الی کذا: فلاں شخص فلاں فلاں کے ساتھ میرا سبب اور وسیلہ تھا۔ الوَدَجان: دو بھائی۔ بئس وَدَجا حربٍ هُما: وہ دونوں جنگ کے دو برے بھائی ہیں۔ الوِدَاج (ع ا): غصہ کے وقت پھولنے والی گردن کی رگ۔ یہ دو ہیں۔

٭ وَدَج جمع اَوْدَاج رگ گردن۔ انتفخت اَوْدَاجُه: اسکی گردن کی رگیں پھول گئیں یعنی وہ طیش میں آ گیا یہ اس معنی میں بھی آتا ہے: وہ بہت مغرور ہو گیا اس نے زبان درازی کی، اس نے تحکمانہ انداز اختیار کیا، وہ اینٹھ کر چلا۔ وِدَاج رگ گردن۔

ودر: وَدِرَ یَوْدَرُ وَدَرًا: مستی سے بیہوشی کے قریب پہنچ جانا۔ ــ الشیءَ: کو ہٹانا، دور کرنا۔ آپ کہتے ہیں: دِرْ وَجْهَكَ عَنّی: اپنا چہرہ مجھ سے ہٹاؤ اور دور کرو۔ وَدَّرَہُ: کو اُکسا کر خطرہ میں ڈالنا۔ ــ الرسولَ: پیغامبر بھیجنا۔ ـ الشیءَ: کو ہٹانا، دور کرنا۔ ـ المالَ: مال میں فضول خرچی کرنا۔ ـ الرجلَ: کو گمراہ کرنا۔ تَوَدَّرَ: فضول خرچ ہونا۔ ــ فی الأمر: میں پڑنا، ملوث ہونا۔ ـ ہ کو ہلاکت میں ڈالنا۔

٭ وَدَّرَہُ: کو خطرہ میں ڈالنا۔ ــ ہ کو ضائع کرنا، برباد کرنا، اُجاڑنا، اُڑانا۔

ودس: ا۔ وَدَسَ یَدِسُ وَدْسًا علیَّ الشیءُ: سے پوشیدہ ہونا۔ ـ الیه بکلام: سے ادھوری بات کرنا۔ ــ بالشیءِ: کو چھپانا۔ ــ الرجلُ: جانا۔ ــ السکلأُ: جگہ کا نباتات سے ڈھکا ہونا، جگہ کا بہت نباتات

والا ہونا، ہریاول والا ہونا۔وَدَّسَ الشـیءُ: پوشیدہ ہونا۔ــ المکانُ: جگہ کا ہریاول والا ہونا۔ــ تِ الماشیةُ: مویشی کا ہریالی چرنا۔ــ الیہ بکلمة: کو کوئی بات پیش کرنا۔اَوْدَسَ تِ الأرضُ: زمین کا اس قدر سبزہ اُگانا کہ زمین ڈھک جائے۔تَـوَدَّسَ المکانُ: جگہ کا ہریالی والا ہونا۔الوَادِس و الوِداس: زمین کی سطح کو ڈھکنے والی نباتات۔الوَدَس: زمین کی سطح کو ڈھکنے والی نباتات،عیب۔الوَدِیـس: خشک نباتات۔اَرضٌ مَوْدُوسَةٌ: کم روئیدگی والی زمین۔

۲الوَدِیس: پتلا شہد۔

ودص. وَدَصَ یَدِصُ وَدْصًا الیہ بکلام: سے ادھوری بات کہنا۔

ودع. وَدَعَ یَدَعُ وَدْعًا الشیءَ: کو چھوڑ دینا۔ــ مالاً عنده: کے پاس مال ودیعت کے طور پر چھوڑنا۔ــ الثوبَ بالثوب: کپڑے کو کپڑے سے محفوظ کرنا۔ــ الشیءَ: ٹھہرنا (اس فعل کے مصدر اور ماضی کا استعمال قلیل ہے)۔ــ المسافرُ الناسَ: مسافر کا لوگوں کو عیش و آرام میں چھوڑنا۔وَدَعَـوهُ: انہوں نے اس کے لئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو آسان کرے اور عیش و آرام میں رکھے۔ــ وَدُعَ یَـوْدُعُ وَدَاعَةً الرجلُ: مطمئن ہونا صفت وَدِیع و وَادِع۔ وَدَّعَ الثوبَ فی صوان و نحوه: کپڑوں کو الماری وغیرہ میں رکھ کر محفوظ کرنا۔ــ المسافرُ القومَ: مسافر کا لوگوں کو عیش و آرام میں چھوڑنا۔ــ القومُ المسافرَ: لوگوں کا مسافر کو رخصت کرنا۔ــ فلاناً: کو چھوڑنا۔ــ الصبیَّ او الکلبَ: بچے یا کتے کی گردن میں کوڑی ڈالنا۔ــ فرسَهُ: گھوڑے کو خوشحال رکھنا۔وَادَعَ مُوَادَعَةً و وِدَاعـاً ہ: سے دشمنی چھوڑ کر صلح کرنا۔اسم الموِداع۔اَوْدَعَ ہُ الشیءَ: کے پاس کوئی چیز امانت رکھنا۔ــ ہُ السرَّ: سے بھید کہنا اور اس کو راز میں رکھنے کے لئے کہنا۔ــ کتابَهُ کذا: خط میں ایسا لکھنا۔ــ الکلامَ معنًى حسناً: کلام میں عمدہ معنی کی تضمین کرنا۔کہا جاتا ہے اَوْدَعْتُهُ مالاً: میں نے اس سے مال قبول کیا تاکہ وہ میرے پاس امانت رہے۔تَوَدَّعَ الثوبَ: کپڑے کو محفوظ کرنا۔ــ فلاناً: کو اپنی حاجت میں مشغول کرنا۔ــ القومُ: بعض کا بعض کو رخصت کرنا۔تَـوَادَعَ الـقومُ: لوگوں کا آپس میں صلح کرنا، ایک دوسرے کو رخصت کرنا۔اِتَّدَعَ: آرام کرنا، قرار پکڑنا، تن آسان ہونا۔اِستَوْدَعَ فلاناً مالاً: کے پاس مال امانت کے طور پر رکھنا۔الدَعَة و التُدْعَة و التَدَعَة والتَّـداعَة: سکون، راحت، عیش و آرام۔المَـوْدُع (مص) جمع وُدُوع: قبر۔ــ والوَدَع واحد وَدْعَة و وَدَعَة جـمـع وَدَعـات: گھونگا، کوڑی۔الـوَدَاع: الوداع، مسافر کو رخصت کرنا، الکلی (alkali) الـوَدَاعة (وَدُعَ کا مصدر): سکون، حلم، بردباری۔الـوَدِیع جمع وُدَعاء: چپ چاپ، پرسکون، مقبرہ، عہدنامہ۔الـوَدِیعة جمع وَدَائِع: امانت (کے طور پر رکھی ہوئی چیز)۔ودیع کا مؤنث۔الـمُسْتَـوْدَع: حفاظت کی جگہ (ع ۱): رحم مادر۔المُوْدَع (مفع) من الخیل: پرسکون، آرام پہنچایا ہوا گھوڑا۔المَودُوع: سکون، حلم، بردباری، وقار۔الـمِیدَع جـمـع مَوَادِع: کپڑے وغیرہ محفوظ رکھنے کی چیز، پرانا کپڑا۔ کـلام مِیدَع: رنج دہ گفتگو۔الـمِیدَعَة: کپڑے وغیرہ کا محفوظ رکھنے کی الماری یا اس قسم کی کوئی اور چیز پرانا کپڑا۔الـمِیداعَة: آرام پسند آدمی، کپڑے وغیرہ محفوظ رکھنے کی الماری وغیرہ۔

۲الـوَدْع جمع وُدُوع: نشانہ۔الاَوْدَع (ح): جنگلی چوہا۔

وَدَعَ یَـدَعُ وَدْعاً ہ: کو تہ نشین کرنا، رکھنا، کو پیوست کرنا، کو دھرنا (صرف اسم اور فعل جاری میں ہے) کو چھوڑنا، کو کرنے دینا، رکنا، چھوڑنا، سے باز رہنا۔ ہ الی: کو کچھ اور بننے کے لئے چھوڑ دینا، نہ کرنا، کو چھوڑ کر (دوسرے) کی طرف جانا۔دَعْ عنك: رک جا، باز رہ۔دَعْ عنكَ دَعْكَ مِن: اس کا تو ذکر ہی کیا۔دَعْكَ مِن هذا: اسے ختم کرو، کو کاٹ کر نکال دو، دور کرو۔دَعْـنَـا من هـذا: ہمیں چاہئے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں، بس بس، اب خاموش رہیں۔دَعْـنَـا نذهـب: آؤ چلیں۔یَدَعُ مَحَلاً: جگہ یا گنجائش چھوڑنا۔وَدُعَ یَوْدُعُ وَدَاعَةً: شریف ہونا، سلیم الطبع ہونا، بھلا مانس ہونا، معتدل یا نرم دل ہونا، مہربان حلیم یا شیریں ہونا، نرم مزاج ہونا، منکسر المزاج ہونا، صلح پسند ہونا، امن خواہ ہونا، صلح جو ہونا، امن پسند ہونا۔وَدَّعَ ہ: کو چھوڑنے جانا، کی مشایعت کرنا، کو خدا حافظ کہنا، کو الوداع کہنا، سے رخصت ہونا۔اَوْدَعَ ہ/ہ ہ: کو میں رکھنا۔ــ ہ ہ: کو میں حفاظت سے رکھنا، حفاظت کے لئے رکھنا۔ــ ہ ہ: کو کوئی چیز سپرد کرنا، کو کے پاس چھوڑنا، کو کوئی چیز حفاظت سے رکھنے کے لئے دینا۔ــ ہ ہ: کو کے سپرد کرنا، کو کی تحویل میں دینا۔ــ ہ ہ: کوئی چیز (بذریعہ ریل وغیرہ) بھیجنا۔اَوْدَعَـهُ السجنَ: کو جیل میں ڈالنا۔اِستَوْدَعَ ہ ہ: کو میں رکھنا، جمع کرنا۔ــ ہ ہ: کو کوئی چیز سپرد کرنا، بھیجنا، کی تحویل میں کوئی چیز دینا۔ــ ہ ہ: کو کے پاس چھوڑنا۔ــ ہ ہ: کو کوئی چیز دینا حفاظت میں رکھنے کے لئے۔ــ ہ ہ: کوئی چیز کسی کے سپرد کرنا۔ــ ہ: کو گودام میں رکھنا۔اَستودعُـهُ اللّٰهَ: کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینا۔اَستودعكَ اللّٰه: الوداع، خدا حافظ۔دَعَة: معتدل مزاجی، نرم دلی، شرافت، شریف دلی، اطمینان، سکون، دلجمعی۔وَدْع: رکھنا جمع کرنا، امانت، تحویل، تہ نشینی۔وَدُع و وَدَع: اسم جمع واحد ودعة: گھونگا، صدف، سیپی، خرمہرہ۔وَدَاع: الوداع، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ کہنا، الوداع کہنا۔الوَدَاع اور وداعاً: خدا حافظ، فی امان اللہ۔وَدَاعَة: نرم دلی، شرافت، اعتدال، منکسر المزاجی، صلح پسندی، امن خواہی، صلح جوئی۔وَدِیـع: پرسکون، صلح پسند صلح جو، امن خواہ، شریف دل، معتدل مزاج، منکسر المزاج، شیریں، نرم دل۔وَدِیـعَة جمع وَدَائِع: امانت (جو کسی پاس رکھی جائے) تحویل جمع کرائی ہوئی رقم، رقم جو بینک میں ایک مدت کے لئے رکھیں، تہ نشین مادہ۔مِیدَعة: پیش بند (apron) (ڈاکٹر کا لبادہ)۔تودیع: خدا حافظ، رخصت چاہنا، خدا حافظ کہنا۔ایـداع: رکھنا، بینک وغیرہ میں رکھی ہوئی رقم وغیرہ، جمع کرانا۔بطاقة الایداع: رقم جمع کرانے کی سلپ یا سرٹیفکیٹ، گرفتاری کا وارنٹ۔مَحْضَرُ الایداع: تحویل یا سپردگی کی دستاویز۔استیداع: رکھنا، بھیجنا، جمع کرانا، تحویل، محفوظ سرمایہ، کسی اہلکار کو نصف تنخواہ پر رکھنا، اہلکار کی عارضی ریٹائرمنٹ میں منتقلی۔فِی الاستیداع: عارضی ریٹائرمنٹ پر غیر وابستہ، نصف تنخواہ پر۔مخزن الاستیداع: ڈپو۔وَادِع: بھیجنے والا، جمع کرانے والا، حلفیہ اظہار دینے والا، تحریری شہادت دینے والا، کرایہ دار، کرایہ دار مہمان، شریف، صلح پسند، معتدل مزاج، صلح جو، پرسکون، معتدل، نیچا، گہرا۔مُوْدِع: بھیجنے والا، کرایہ دار، کرایہ دار مہمان، جمع کرانے والا، شریف، معتدل مزاج، صلح جو، صلح پسند، معتدل، نیچا، گہرا۔مُوْدَع: رکھا ہوا، بھیجا ہوا، جمع کرایا ہوا، جمع شدہ رقم۔الـمُـودَع لـدیـه: محافظ، جسے مال بھیجا جائے، مرسل الیہ، وہ جگہ جہاں مال جمع کرایا جائے۔مُسْتَوْدِع: بنک میں رقم جمع کرانے والا۔مُسْتَـوْدَع: رکھا ہوا، بھیجا ہوا، جمع کرایا ہوا، سٹور کیا ہوا، عارضی ریٹائرمنٹ پر، غیر وابستہ، نصف تنخواہ پر، ریزرو میں۔جمع مُسْتَـودَعـات: وہ جگہ جہاں مال جمع کرایا جائے، رکھنے کی محفوظ جگہ، سٹور ہاؤس، گودام، بڑی دوکان، ڈپو، ہوائی جہازوں

کے لئے چھپر (hangar) چیز دان، کنٹینر (container) ٹالا، خزانہ آب۔ مُسْتَوْدَعُ التدريب: ٹریننگ سنٹر۔

ودف: ا- وَدَفَ يَدِفُ وَدْفاً الشحمُ: چربی پگھلنا، بہنا۔ ۔۔ الاناءُ: برتن کا ٹپکنا۔ ۔۔ له العطاءَ: کو بخشش کم دینا۔ تَوَدَّفَ الخبرَ: خبر دریافت کرنا، تلاش کرنا۔ اِسْتَوْدَفَ الخبرَ: خبر تلاش کرنا، دریافت کرنا۔ ۔۔ الشحمَ: چربی کو ٹپکانا۔ ۔۔ اللبنَ: دودھ کو برتن میں ڈالنا۔ ۔۔ معروفَ فلانٍ: کا احسان یا بھلائی مانگنا، بخشش مانگنا۔ الوَدْفَة: چربی۔

۲- تَوَدَّفَتِ الأوعالُ فوقَ الجبلِ: بارہ سنگوں کا پہاڑ کی چوٹی سے جھانکنا۔ اِسْتَوْدَفَ فی الاناء: برتن کا سرا کھول کر اندر دیکھنا۔ ۔۔ النباتُ: مرغزار، سبزہ کا اونچا ہونا۔ الودْفة و الوَدِيفة: سرسبز باغ۔ الوَدْفة (ن): ایک قسم کی نباتات جسے نَصِیّ بھی کہا جاتا ہے۔

ودق: ا- وَدَقَ يَدِقُ وَدْقاً و وُدُوقاً اليه: کے قریب ہونا۔ ۔۔ بطنُهُ: پیٹ کا وسیع ہونا یا دست لگنا۔ ۔۔ به: سے مانوس ہونا۔ ۔۔ تِ السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔ ۔۔ وَدْقاً المطرُ: بارش کا گرنا۔ ۔۔ وَدِقَ يَوْدَقُ وَدُقَ يَوْدُقُ وَدْقاً و وُدْقاً و وُدُوقاً و وِداقاً و وَدَقاناً ت ذاتُ الحافر: سم دار مادہ کا جفتی کی خواہش کرنا صفت: وادِقٌ و وُدُوقٌ و وَدِيقٌ اسم الوِداق۔ اَوْدَقَتِ السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔ الوَدْق (مص): بارش۔ الوَدِيقَة جمع وَدائِق: سبزہ زار، گرمی کی شدت۔ المَوْدِق: ہرنی وغیرہ کی کھڑے ہونے کی جگہ جہاں وہ درخت تک پہنچ سکے۔

۲- وَدِقَ يَيْدَقُ وَدَقَت عينُهُ: کی آنکھ میں سرخ پھنسی ہونا۔ الوَدْقة و الوَدَقة جمع وَدْق و وَدَق: آنکھ کے اندر کی سرخ پھنسی۔ عينٌ وَدِقَةٌ: آنکھ جس کے اندر سرخ پھنسی ہو۔

۳- وَدَقَ يَدِقُ وَدْقاً و وُدُوقاً السيفُ: تلوار کا تیز ہونا۔

۴- المَوْدِق: گھمسان کی جنگ کا میدان، دو چیزوں کے درمیان روک، رکاوٹ۔

◯ وَدِيقة: گھاس کا تختہ، سبزہ زار، مرغزار، لان۔

ودك: وَدِكَ يَوْدَكُ وَدَكاً: چربی دار اور موٹا ہونا۔ وَدَّكَ الثريدَ: ثرید میں چربی ڈالنا۔ الوادِك و الوَدِك: موٹا، چربی دار۔ الدِكَةُ: چربی۔ الوَدَك: گوشت اور چربی کی چکناہٹ۔ رجُلٌ ذو وَدَكٍ: ۔۔۔ وَدَكُ الميتة: مردار کا پانی۔ الوَدّاك: چربی فروش۔ دَجاجَةٌ وَدُوكٌ و دِيكٌ: موٹی مرغی۔

الوَدِيكة: چربی ملا ہوا آٹا۔ ودیک کا مؤنث۔ دجاجةٌ وَدِيكَة: موٹی مرغی۔

۲- بناتُ اَوْدَك: مصائب۔

◯ وَدَك: چربی۔ وَدِك و وَدُوك و وَدِيك و وادِك: چربی دار، موٹا (صفت)۔

ودل: وَدَلَ يَدِلُ وَدْلاً السقاءَ: مشکیزے میں دودھ بلونا۔

ودن: ا- وَدَنَ يَدِنُ وَدْناً الشيءَ: چیز کو چھوٹا کرنا، کم کرنا۔ کوٹنا۔ مودون: کوٹی ہوئی چیز۔ ۔۔ ہ بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ۔۔ ودناو وَدِنَ يَوْدَنُ وَدَنات المرأةُ: عورت کا کمزور جسم کے بچے جننا۔ وَدَّنَ الشيَ: کو چھوٹا کرنا، کم کرنا۔ اَوْدَنَ الشيءَ: چیز کو گھٹانا، چھوٹا کرنا، حقیر کرنا۔ ۔۔ ت المرأةُ: عورت کا کمزور جسم کے بچے جننا۔ المُوْدَن: کمزور بچہ۔ المُوْدَن: چھوٹا، ناقص الخلقت۔ المَوْدُون م مَوْدُونَة: کمزور بچہ، کوتاہ گردن اور چھوٹے ہاتھوں والا، ناقص الخلقت، تنگ کندھوں والا۔

۲- وَدَنَ يَدِنُ وَدْناً و وِداناً الشيءَ: کو تر کرنا، بھگونا۔ ۔۔ الجلدَ: چمڑے کو نرم کرنے کے لئے مٹی کے نیچے دبانا۔ وَدَّنَ الشيءَ: چیز کو تر کرنا، نرم کرنا۔ تَوَدَّنَ الجلدُ: چمڑے کا نرم ہونا۔ اِتَّدَنَ الجلدُ: کھال کا بھگونا۔ الجلدُ: کھال کا بھیگنا۔ الأوْدَن: نرم وملائم۔ الوَدِين: بھگویا ہوا۔

وده: ا- وَدَهَ يَدِهُ وَدْهاً فلاناً عن الامر: کو سے ہٹانا، روکنا۔ اَوْدَهَ اِيداهاً بالابلِ: اونٹوں کو ڈانٹنا۔ ۔۔ فلاناً عن كذا: کو سے باز رکھنا۔ اِسْتَوْدَهَ الخصمُ: دشمن کا مغلوب ہونا، مطیع ہونا۔ ۔۔ تِ الابلُ: اونٹوں کا اکٹھا ہونا۔ ۔۔ الرجُلَ: کو ذلیل جاننا۔ ۔۔ الأمرُ: کام کا درست ہونا۔

۲- الوُدْهاء من النساء: خوبصورت گوری عورت۔

ودی: ا- وَدَى يَدِي وَدْياً و دِيَةً القاتِلُ القتيلَ: قاتل کا مقتول کے وارث کو خون بہا دینا۔ اِتَّدَى اِتِّداءً: خون بہا لینا، اپنے مقتول کا انتقام نہ لینا (اصل میں اوْتَدَی ہے)۔ اِسْتَوْدَى اِسْتيداءً بحقِّه: کے حق کا اقرار کرنا۔ الدِيَة (مص) جمع دِيات: خون بہا۔ (اصل وَدْيٌ ت واو محذوف کے عوض ہے جیسے عِدَة میں)۔

۲- وَدَى يَدِي وَدْياً الشيءُ: بہنا۔ (وادی اس سے مشتق ہے کیونکہ اس میں پانی بہتا ہے۔ وَدَى کا امر کا صیغہ اس طرح پر ہے: دِدِيا دُوا دِي دِيا دِينَ۔) اَوْدَى اِيداءً: ہلاک ہونا صفت: مُودٍ ۔۔ بہ

الموتُ: موت کا کسی کو لیجانا۔ ۔۔ بالشيءِ: چیز کو لیجانا۔ الوادِي (فا) جمع اَوْدِيَة و اَوادِيَة و اَوْداء (عام لوگ اس کی جمع وِدْيان استعمال کرتے ہیں): پہاڑوں یا ٹیلوں کے درمیان سیلاب بہنے کی جگہ، طریقہ، مذہب۔ کہا جاتا ہے: هما من وادٍ واحدٍ: یہ دونوں ایک ہی معنی یا لفظ سے ہیں۔ سال بهم الوادی: وہ ہلاک ہو گئے۔ أنتَ في وادٍ و نحنُ في وادٍ: مقاصد میں اختلاف پر یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ الوَدَى: ہلاکت۔ الوَدِيّ واحد وَدِيَّة (ز): کھجور کے چھوٹے پودے۔ المُودِي (ح): شیر۔ (درندہ)۔

۳- وَدَى يَدِي وَدْياً و دِيَةً الأمرَ: کو نزدیک کرنا۔

۴- التَوْدِيَة جمع التَوادِي: پستہ قد آدمی، اونٹنی کے تھنوں پر باندھنے کی لکڑی۔

◯ وَدَى يَدِي وَدْياً ہ: کو مقتول کا خون بہا دینا۔ اَوْدَى: مرنا، ہلاک ہونا۔ ۔۔ ب (موت کا) کو ہلاک کر دینا۔ ۔۔ ب: کو قتل کرنا، تباہ کرنا۔ اَوْدَى بحياته: کی زندگی تباہ کر دینا۔ اَوْدَى بصحته: کی صحت برباد کرنا، کی قوت ختم کر دینا۔ دِيَة جمع دِيات: خون بہا، جسمانی نقصان کا ہرجانہ۔ وادٍ جمع اَوْدِيَة و وِدْيان: وادی، دریائی وادی، دریا کا پیندا، گری گھاٹی، تنگ گھاٹی، (دریا، اخباری) کالم: اسال اودية من الحبر: روشنائی کافی مقدار میں گرانا۔ نحن في داد و انتم في واد: ہم مختلف کیمپوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے درمیان ایک گہری خلیج ہے، ہم مختلف دنیاؤں میں کھڑے ہیں۔ حَوَّمَ به الفكرُ في اَوْدِيَةٍ شتّى: اس کے خیالات اسے دور لے گئے، وہ کوئی اور بات سوچ رہا تھا، وہ خیالات میں کھویا ہوا تھا، پراگندہ دماغ تھا۔ ذهب صيحةً في وادٍ: پکار کا رائیگاں جانا اور کسی کا نہ سننا۔ هامَ في وِدْيان: وہ بدحواس تھا، وہ اپنے آپ میں نہ تھا، وہ بلند تر میدانوں میں تیر رہا تھا۔ في كلِّ وادٍ: ہر جگہ، ہر جانب۔ وادِي حَلْفا: (مصر کی سرحد پر شمالی سوڈان کا ایک شہر)۔

وذ: وَذْوَذَ الرجُلُ: جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے: مَرَّ الذئبُ يُوَذْوِذُ: بھیڑیا جلدی جلدی چلتے گزرا۔ رجُلٌ وَذْواذ: تیز چلنے والا مرد۔

وذا: وَذَأَ يَذَأُ وَذْأً فلاناً: کو ڈانٹنا، حقیر سمجھنا، پر عیب لگانا۔ ۔۔ تِ العينُ عن الشيءِ: آنکھ کا چیز سے چندھیا جانا۔ اِتَّذَأَ: جھڑکی برداشت کرنا۔ الوَذْء (مص): ناپسندیدہ بات۔ الوَذاة: عیب، علت۔

وذح: ا- وَذَحَ يَذِحُ وَذْحاً: تیز چلنا- وَذِحَ يَوْذَحُ وَيَيْذَحُ وَذَحًا الرجلُ: رانوں کے اندر کے حصوں کا جلا ہوا ہونا۔

۲- وَذِحَ يَوْذَحُ و يَيْذَحُ وَذَحَاتِ الشاةُ: بکری کا رانوں پر خشک گوبر یا مینگنی لگی ہوئی ہونا۔ الوَذَح واحد وَذَحَة جمع وُذُح: بکری یا بھیڑ کی اون میں لگا ہوا خشک شدہ پیشاب یا مینگنیاں۔ الأَوْذَح: لئیم، کمینہ۔

وذر: ا- وَذَرَ يَذِرُ وَذْراً ہ: کو کاٹنا۔ ـــ الجرحَ: زخم کو چیرنا۔ ـــ وَذَّرَ تَوْذِيراً الوَذْرَةَ: گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹنا۔ الوَذْرَة من اللحم جمع وَذْر و وِذَر: گوشت کا چھوٹا ٹکڑا۔ الوَذْرتان: دو ہونٹ۔ الوَذِرَة: پر گوشت بازو، بدبو والی عورت یا موٹے ہونٹوں والی عورت۔ الوُذَارَة: درزی کے کٹے ہوئے کپڑا کا ٹکڑا یا کانٹ چھانٹ۔

۲- وَذَرَ يَذَرُ وَذْراً الشيءَ: کو چھوڑنا (یہ معنی صرف مضارع و امر میں ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں: ذَرْهُ: اسے چھوڑ دے یَذَرُهُ وہ اسے چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا۔ اگر ماضی مراد ہو تو کہا جائے گا تَـــرَكَ یا مصدر التَّرْك اور اسم الفاعل تارِك کہا جائے گا۔

وذع: وَذَعَ يَذَعُ وَذْعاً الماءُ: پانی بہنا۔ الوَاذِع (فا): چشمہ، چٹان پر بہنے والا پانی۔

وذف: وَذَفَ يَذِفُ وَذْفاً الشحمُ وغيرُهُ: چربی وغیرہ کا بہنا۔ ـــ وَذْفاً و وَذَفَاناً و وَذَّفَ و تَوَذَّفَ: ناز و تکبر سے چلنا۔

وذل: ا- تَوَذَّلَ القومُ من الجزّار: لوگوں کا قصائی سے گوشت کا ٹکڑا لینا۔ الوَذَالة: گوشت کا ٹکڑا جس کو قصاب تقسیم سے علیحدہ رکھ لے۔ الوَذِيلة: کوہان یا دم کے گوشت کا ٹکڑا۔

۲- امرأةٌ وَذِلَة و وَذَلَة: خوبصورت قد والی چست عورت۔ الوَذِيلَة جمع وَذِيل و وَذَائل: چاندی کا پالش کیا ہوا یا عام ٹکڑا، آئینہ۔ ـــ من النساء: خوبصورت قد کی عورت۔

وذم: وَذِمَ يَوْذَمُ وَذَماً تِ الدلوُ: ڈول کا تسمہ ٹوٹنا۔ صفت: وَذِمَة۔ ـــ الوَذَمُ نفسُهُ: تسمہ ٹوٹنا۔ وَذَمَ ہُ: کو کاٹنا۔ ـــ الكلبَ: کتے کی گردن میں تسمہ یا پٹا باندھنا۔ ـــ الدلوَ: ڈول کا تسمہ بنانا۔ ـــ اليمينَ: قسم اپنے پر واجب کرنا۔ ـــ على الخمسين: پچاس سے عمر زیادہ ہونا۔ أَوْذَمَ الدلوَ: ڈول میں تسمہ باندھنا یا اس کے لئے تسمہ بنانا۔ ـــ النذرَ: اپنے پر نذر واجب کرنا۔ ـــ على الخمسين: پچاس سے زیادہ ہونا۔ الوَذَم (مص) جمع وُذُوم و أَوْذَام و أَوْذُم و جج أَوَاذِم: بیشی، زیادتی، منہ۔ ـــ واحد: وَذَمَة: ڈول کا تسمہ۔ الوَذَمَة جمع وِذَام: آنتیں، اوجھ۔ امرأةٌ وَذْماء: بانجھ عورت۔ فرسٌ وَذْماء: بانجھ گھوڑی۔ الوَذِيمَة جمع وَذَائِم: فی سبیل اللہ دیا جانے والا مال۔ وَذِيمَةُ الكلب: کتے کی گردن کا پٹہ۔

وذن: تَوَذَّنَ تَوَذُّناً ہُ: کو پھیر دینا، تبدیل کرنا۔ ـــ الشيءُ فلاناً: چیز کا کسی کو پسند آنا۔

وذى: وَذَى يَذِي وَذْياً وجهَهُ: کے چہرہ کو ناخنوں سے نوچنا، چھیلنا۔ الوَذَاة: ایذا پانے کا باعث۔ الوَذِيَة: ایک بار، درد، بیماری، عیب، تھوڑا پانی۔

ورّ: ا- الوَرّ (ع ا): سرین۔ الوَرَّة: زمین کا گڑھا، سرین۔

۲- وَرْوَرَ النظرَ: نظر تیز کرنا۔ ـــ في الكلام: جلدی بولنا۔ الوَرْوَار (ح): شہد کی مکھیاں کھانے والا پرندہ۔ چھوٹی ٹانگوں کالی اور لمبی چونچ کا ایک پرندہ جس کے سر کے بالائی حصہ پر سرخی اور گلے میں حلقہ ہوتا ہے، رنگ زردی مائل جبکہ سارا بدن نیلگوں مائل ہوتا اور دم میں دو لمبے پر ہوتے ہیں۔ الوَرْوَرِيّ: کمزور نظر والا۔ المُوَرْوِر (فا): گانے والا، چہچہانے والا (پرندہ)۔

ورأ: وَرَأَ يَرَأُ وَيَوْرَأُ وَرْءاً الشيءَ: کو ہٹانا، دور کرنا۔ ـــ من الطعام: کھانے سے شکم سیر ہونا۔ کہا جاتا ہے: ما وَرَأْتُ و ما أَوْرَأْتُ و ما وَرَأْتُ به: میں نے اس کو نہیں جانا۔ تَوَرَّأَتْ عليهِ الارضُ: پر زمین کا گر کر برابر ہو جانا۔ الوَرَاء: پوتا، چوڑی چپٹی ہڈیوں کا موٹا اور جسیم۔ وراءُ الإنسان: انسان کے پیچھے، (کبھی) آگے۔ مذکر و مونث۔ تصغیر وُرَيِّئَة و وُرَيّ: (کہا جاتا ہے: هُوَ وُرَيِّئَةَ الحائط او وُرَيِّئَة: وہ دیوار کے ذرا پیچھے (آگے) ہے)۔ سِوَى: کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے: ومن ابتغى وراءَ ذلكَ: جو شخص اس کے سوا طلب کرے۔

ورب: ا- وَرِبَ يَوْرَبُ وَرَباً العِرقُ: خراب ہونا صفت: وَرِب۔ ـــ وَرَّبَ الشيءَ فَاوْرَبَ: چیز کو ترچھا کرنا، موڑنا، خم کرنا، پھر اس کا ترچھا ہو جانا، مڑ جانا اور خم ہو جانا (عام زبان میں)۔ وَرَّبَ عن الشيءِ: کے بارے میں معارضات سے توریہ کرنا۔ وَارَبَ وِرَاباً و مُوَارَبَةً الرجلَ: کو فریب میں لانا، کو فریب دینا۔ الوَرْب جمع أَوْرَاب: جنگلی جانوروں کا بھٹ، چوہے یا بچھو وغیرہ کے بل کا منہ۔ الوِرَاب: کجی، موڑ۔

۲- الوَرْب جمع أَوْرَاب: دو پسلیوں کا درمیانی حصہ، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کھلی ہوئی حالت میں۔ الوَرْب: عضو۔ الوَرْبَة: چوتڑ، کوکھ کا گڑھا۔

۳- وَرَّبَ عن: کے بارے میں گول یا پہلودار بات کرنا، مبہم بات کہنا۔ وارَبَ ہُ: سے دورخی سے کام لینا، دھوکا کرنا، کو جل دینا، ٹھگ لینا۔ وَرْب جمع أَوْرَاب: ترچھا پن، خم، کجی، جھکاؤ، خم دار طرف، ڈھلوان، قطر، وتر، وتری، زاویہ قائمہ سے منحرف۔ ـــ بالوَرْب: آڑے طریقے سے، ترچھے راستہ سے، آڑا آڑا ترچھا ترچھا، طعن و طنز سے، چوٹ دے کر، ترچھا، ٹیڑھا، آڑا، وتر کی شکل، زاویہ قائمہ سے منحرف، چوڑے رخ، قطع کرتا ہوا۔ وِرَاب: ترچھا پن، کجی، جھکاؤ۔ مُوَارَبَة: گول مول بات، ابہام، ہیر پھیر، لفظی ہیر پھیر، مبہم بات، ذومعنی لفظ یا جملہ۔ بدون مُوَارَبَةٍ یا في غير مُوَارَبَة: واضح غیر مبہم طور پر، یقینی طور پر۔ مُوَرَّوب: ترچھا، جھکا ہوا، ڈھلوان، آڑا، منحرف از زاویہ قائمہ، وتری، قاطع، جزوی طور پر کھلا ہوا، نیم وا، نیم باز (دروازہ)۔ مَوَارَب: نیم وا، نیم باز (دروازہ)

ورث: ا- وَرِثَ يَرِثُ وِرْثاً و وَرْثاً و إِرْثاً و إِرْثَةً و رِثَةً و تُرَاثاً فلاناً: کا وارث ہونا۔ کہا جاتا ہے: وَرِثَ المالَ و المجدَ عن فلان: اس کو فلاں سے مال اور شرافت ورثہ میں ملی۔ وَرَّثَ الرجلُ مالاً: مال کو کی میراث قرار دینا۔ ـــ ہُ من فلان: کے مال کو کے لئے ورثہ میں چھوڑنا، مال کو کسی شخص کو میراث کے طور پر دینا۔ کو فلاں کا وارث بنانا۔ ـــ الرجلُ فلاناً: کو اپنا وارث بنانا۔ أَوْرَثَ إِيرَاثاً ہُ: کو وارث بنانا۔ ـــ فلاناً مالاً: مال کو فلاں کی میراث قرار دینا۔ مال کو کے لئے ورثہ میں چھوڑنا، کو مال میراث کے طور پر دینا۔ ـــ ہُ السَقَمَ: کو بیماری میں مبتلا کرنا۔ ـــ ہُ الشيءَ: کو کا وارث بنانا۔ ـــ ہُ الحزنُ همّاً: غم کا کے لئے پریشانی کا باعث ہونا۔ ـــ المطرُ النباتَ نعمةً: بارش کا پودوں کے لئے باعث نعمت ہونا۔ ـــ ولدَهُ: اپنے بیٹے کو تنہا اپنا وارث بنانا۔ تَوَارَثَ القومُ: ایک دوسرے کا وارث ہونا۔ ـــ القومُ المالَ او المجدَ: بعض کا بعض سے مال یا شرافت کا وارث ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَوَارَثُوا المجدَ كابراً عن كابرٍ: انہوں نے اپنے باپ دادوں سے شرافت پائی۔ ـــ المجدُ متوارث بينهم: شرافت انہیں ورثے میں ملی ہے۔ هم في ارث مجد: وہ شرافت کے وارث ہیں۔ تَوَارَثَتْنِي الحوادثُ: حوادث مجھ پر پے در پے آ گئے۔ الوَارِث جمع

وَرَثَة و وُرّاث (فا): وارث الإرث والورث و
الـوِراثة و التُراث (مصـادر): میت کا ترکہ۔
المَوْرُوث (مفع): میراث چھوڑنے والا، ورثہ میں
حاصل کیا ہوا مال المیراث: جمع مواریث: میت کا
ترکہ۔

۲ورّث النار: آگ بھڑکانے کے لئے ہلانا۔

۳الوَرْث: تازہ چیز۔

○ وَرِثَ یَرِثُ وِرْثاً و اِرْثاً و اِرْثَةً و وِراثةً ورِثَةً و
رِاثةً ہ: کا وارث ہونا۔ ہ من/عن/ہ: کو سے
ورثہ میں پانا وَرَّثَ ہ: کو وارث مقرر کرنا۔ ہ ہ:
کو کوئی چیز وصیت کے ذریعے منتقل کرنا، کے لئے کوئی
چیز چھوڑنا، کے لئے کوئی چیز ورثے میں چھوڑنا، کے
لئے کوئی ترکہ چھوڑنا، کو کوئی چیز امیراث کے طور پر دینا،
کے حوالے کوئی چیز کرنا اَوْرَثَ بمعنی وَرَّثَ۔
نیز اَوْرَثَ ہ ہ: کے لئے کا سبب ہونا تَوارَثَ ہ:
کا وارث ہونا، کو بطور وراثت رکھنا اِرْث: ورثہ پانا،
ورثہ، ترکہ، میراث، (موروثی) جائداد وِرْث: ورثہ
پانا، ترکہ، ورثہ، میراث وِراثة: ورثہ پانا، ورثہ،
ترکہ، میراث۔ وراثتاً منتقل ہو سکنا، موروثی، جدی،
انتقال، موروثیت وِراثی موروثی، جدی الامراضٌ
وِراثیة: موروثی بیماریاں وَرِیث جمع وُرَثاء:
وارث تُراث: ورثہ پانا، ورثہ، ترکہ، میراث مِیراث:
ترکہ، ورثہ، میراث، موروثی جائداد تَوارُث: موروثی
انتقال، توارث وارِث جمع وَرَثة و وُرّاث:
وارث مَوْرُوث: ورثہ میں پایا ہوا، روایتی، وراثتی،
خاندانی، موروثی مُوَرِّث و مُوْرِث: موصی،
وصیت چھوڑنے والا، وصیت کرنے والا، وصیت
کنندہ مُتَوارَث: ورثہ میں پایا ہوا، خاندانی خصوصیات
کا حامل۔

ورخ: وَرِخَ یَوْرَخُ وَرَخاً العجینُ: گندھے ہوئے
آٹے کا پتلا ہونا اَوْرَخَ العجینَ: گندھے ہوئے
آٹے کو پتلا کرنا تَوَرَّخَ تَوَرُّخاً العجینُ:
گندھے ہوئے آٹے کا پتلا ہونا ــــ واسْتَوْرَخَ
اِسْتِیراخاتَ الارضُ: زمین کا تر ہونا مَکانٌ
وَرِخ: گھنی گھاس والی جگہ المَورِیخة جمع
وَرائِخ: تر زمین، گیلی زمین، پتلا گندھا ہوا آٹا وَرَّخَ
الکتابَ: خط پر تاریخ لکھنا۔ دیکھو مادہ "ارخ"۔

ورد: وَرَدَ یَرِدُ وُرُوداً الماءَ: پانی پر آنا یا پہنچنا۔
صفت وارِد۔ الماءَ وغیرہ: پانی وغیرہ پر پہنچنا،
کے قریب جانا اسم الوِرْد۔ الرجلُ: حاضر ہونا۔
ــ تِ الحمّیٰ: بخار کا باری سے آنا وردتُ البلدَ:
میں شہر میں وارد ہوا وَرَدَ علیّ کتابٌ: میرے
پاس خط آیا وُرِدَ الرجلُ: کو بخار آنا ــ علیہ
بفلان: کے پاس کسی کو لایا جانا وارَدَ مُوارَدةً
الرجلَ: کے پاس آنا ــ الشاعرُ الشاعرَ:
دوسرے شاعر کی نظم سے ملتی جلتی نظم بغیر اس کو دیکھنے یا
سننے کے کہنا اَوْرَدَ اِیراداً ہُ: کو گھاٹ پر لانا، کو پیش
کرنا، کو لانا اِیرادُ البضائع: مال کی درآمد، اس
کے برعکس: برآمد کو اِصْدار کیا جاتا ہے۔ ہ الماءَ: کو
پانی پر لانا اَوْرَدَ الکلامَ: کی تصریح کرنا ــ
الشیءَ: کا ذکر کرنا۔ علیہ الخبرَ: سے خبر بیان
کرنا تَوَرَّدَ: پانی پر آنے کو کہنا۔ الماءَ: پانی پر
آنا ــ الخیلُ البلدةَ: شہر میں چھوٹے چھوٹے
دستوں میں داخل ہونا تَوارَدَ القومُ اِلی المکان:
کسی جگہ ایک ایک کر کے حاضر ہونا۔ القومُ الماءَ:
پانی پر اکٹھے پہنچنا۔ الشاعِران: دو شاعروں کا بغیر
لئے یا سنے ہوئے لفظ و معنی میں اتفاق کرنا اِسْتَوْرَدَ
الماءَ: پانی پر آنا ــ ہُ: کو گھاٹ پر لانا ــ
الضلالةَ: گمراہی میں مبتلا ہونا ــ فلاناً
الضلالةَ: کو گمراہی میں مبتلا کرنا ــ البضائع
(ن): مال کو دوسرے ملکوں سے درآمد کرنا الوارِد:
دلیر، بہادر، جری، راستہ، لمبے لٹکے ہوئے بال وغیرہ۔
فلانٌ واردُ الأرنبة: فلاں لمبی ناک والا ہے، ہر لمبی
چیز کو وارد کہتے ہیں ــ جمع وارِدُون و وُرّاد و
وُرُود و وارِدة (فا): پانی پر آنے والا، آنے والا،
پہنچنے والا الوارِدة: الوارد کا مونث: راستہ، پگڈنڈی،
پانی پر آنے والے لوگ الوارِدات: کشم وغیرہ۔
(اس کے برعکس الصادرات) الوَرْد جمع وُرْد و
وِراد و اَوْراد (ح): شیر، بہادر، دلیر، جری۔
الوِرْد: پیاس، پانی کا حصہ، لایا ہوا پانی، پانی پر آنے
والے اونٹ یا لوگ، لشکر، پرندوں کا جھنڈ۔ جمع
اَوْراد: بخار، پانی وغیرہ پر آنا، قرآن حکیم کا وہ حصہ جو
ورد کے طور پر ہر رات پڑھا جائے الوَرُود: تیز
چلنے والا اونٹ الوَرِید جمع اَوْرِدة و وُرُد و
وُرُود (ع ا): گردن کی رگ، اس کو حبل الورید بھی
کہتے ہیں رجلٌ منتفخُ الوَرِید: غضبناک بد خلق
آدمی المَوْرِد جمع مَوارِد: گھاٹ، پانی کی
طرف جانے کا راستہ المَوْرِدة: پانی کی جگہ، پانی
کی طرف جانے کا راستہ، جائے ہلاکت۔

○ وَرَدَ یَرِدُ وُرُوداً الشجرةُ: درخت کا پھول
نکالنا وَرُدَ یَوْرُدُ وُرُودةً و اِیراداً الفرسُ: گھوڑے
کا زردی مائل سرخ ہونا وَرَّدَ الشجرُ: درخت کا
پھول نکالنا۔ تِ المرأةُ: عورت کا اپنے رخساروں
کو سرخ کرنا۔ الثوبَ: کپڑے کو گلابی رنگنا تَوَرَّدَ
الخدُّ: رخسار کا سرخ ہونا الوَرْد جمع وُرُود و
وِراد و اَوْراد (ن): زعفران ــ من الخیل:
زردی مائل سرخ رنگ کا گھوڑا۔ واحد وَرْدة جمع
وَرُود: درخت کی کلی (ن): گلاب کا پودا وَرْدُ
ذَفْراء (ن): ایک قسم کا پودا الوُرْدة: گھوڑے کا
سرخ رنگ الوَرْدِی م وَرْدِیة: گلابی رنگ کا الوَرْدِیة
(ن): ایک قسم کا پھولدار پودا۔ عند الکاثولیك:
ہر مہینے کے پہلے اتوار کو حضرت مریم کی خدمت میں
پیش کی جانے والی عبادت الوَرْدِیات: گلاب
سیب، خوبانی، بہی وغیرہ کے نباتات، پودوں اور
درختوں پر مشتمل ایک قسم بِنْتُ وَرْدانَ جمع
بناتُ وردانَ (ح): ایک قسم کا بدبودار کیڑا المُوَرَّد
(مفع): گلابی، سرخ۔ کہا جاتا ہے جمع مُوَرَّدَ
القَذال: وہ گدی پر تھپڑ کھا کر لوٹا۔ جو طمانچوں سے
سرخ ہو گئی تھی۔

۳الوِرْدِیان: حارس، چوکیدار۔

○ وَرَدَ یَرِدُ وُرُوداً: آنا، پہنچنا، ظاہر ہونا، پایا جانا۔
فی: (کتاب، خط وغیرہ میں) کہا جانا، مذکور ہونا۔
اِلی/ہ: (کسی جگہ) پہنچنا، آنا ــ علی: (خط،
روپیہ پیسہ وغیرہ) کو ملنا؛ کے ہاتھ آنا وَرَّدَ ہ ب:
کسی چیز کو کسی چیز یا شخص کے پاس پہنچانا ــ ہ: کو
درآمد کرنا ــ ہ ب: کوئی چیز کسی کو مہیا کرنا، فراہم
کرنا، کو کھلانا، کو میں جمع کرانا، کو میں ادا کرنا اَوْرَدَ
ہ/ہ: کو بتانا، رکھنا۔ ہ/علی: کے پاس آنا۔
ہ/ہ علی/الی: کو کے پاس لانا، لیجانا۔ ہ الی:
کو کسی جگہ منتقل کرنا۔ ہ: کو درآمد کرنا۔ ہ: کو جمع
کرانا، ادا کرنا ــ ہ: کو پیش کرنا، کو فراہم کرنا، مہیا
کرنا۔ ہ: کا ذکر کرنا، کو بیان کرنا، کی تربیت کرنا، کا
حوالہ دینا ــ ہ ب: اپنی گفتگو میں بات کاٹنا، قطع
کلام کرنا، کا تعارف کرانا، کا اتفاقیہ ذکر کرنا، کی طرف
اشارہ کرنا تَوارَدَ: لگاتار آنا، پہنچنا، یکے بعد دیگر
آنا، ایک دوسرے کے بعد آنا، مسلسل ہونا، پے در پے
ہونا، متواتر ہونا، (خبروں مراسلوں وغیرہ) کا آنا
(خیالات وغیرہ کا) منطبق ہونا، ٹھیک بیٹھنا، اتفاقاً
یکساں، وہی، ہو بہو، بالکل ویسا یا ویسا ہی ہونا۔
اِسْتَوْرَدَ ہ من: کی طرف سے فراہم کردہ چیز رکھنا،
کو سے خریدنا، لینا، کو سے درآمد کرنا وِرْد: پانی لینے
کی جگہ، جانوروں کا پانی پر آنا۔ جمع اَوْراد: (پنجگانہ
نماز کے علاوہ) دن یا رات مخصوص وقت جو ذاتی

عبادت کے لئے وقف ہو۔الوِردُ الذی طالما التسبیح بہ یا الورد الذی یُتْلَی فی الغُدُوِّ و الآصال: ہمیشہ وہی پرانا قصہ۔جنتُ وردانَ جمع بناتُ وَرْدان: کوکروچ، تل چٹا۔وَرِید جمع أوْرِدَة و وُرُد و وُرُود: رگ، رگِ گردن حبل الوَرِید: رگِ گردن۔وُرُود: آنا، پہنچنا، آمد، ظہور۔مَورِد جمع مَوارِد: آنے یا پہنچنے کی جگہ، منزل مقصود، پانی تک رسائی، پانی پینے پلانے کی جگہ، چشمہ، کنواں، ذریعہ، جس سے رجوع کیا جائے، مصلحت، چارہ کار، ابتداء کی جگہ، اصل مقام، آمدنی کا ذریعہ، آمدنی، سپلائی، درآمد۔موارِدُ الدولة: حکومت کے مالیہ محاصل۔مواردُ الزیت: تیل کے کنویں۔ موارِدُ المعیشة: فوڈ سپلائی لائنز (food suply lines)۔مَورِدَة: پانی پینے یا پلانے کی جگہ، اترنے کی جگہ، گھاٹ، جہازوں سے مال اتارنے چڑھانے کا گھاٹ، لکڑی یا پتھر کا ساحلی چبوترہ، مال گودی۔ تَورِید جمع تورِیدات: فراہم کرنا، بہم رسانی، خوراک، درآمد کرنا، درآمد، سپلائی، دانہ، گھاس، چارہ، دودھ، راتب خوراک۔تورِید البضائع: سامان کی بہم رسانی۔إیراد: حجت، دلیل، نظیر کا اظہار، حتمی بیان۔إدّعاء پیش کرنا، ذکر کرنا، حوالہ دینا، حوالہ، اقتباس، قول۔جمع إیرادات: درآمد کرنا، درآمد، بہم رسانی، مالیہ، آمدنی، منافع، نفع، محاصل، وصولی، پیداوار۔توارُد: پے در پے آمد، خیالات کی اتفاقیہ یکسانیت یا کامل مطابقت۔استیراد: درآمد کرنا، درآمد، درآمدات۔وارِد جمع وُرّاد: آنے والا، پہنچنے والا، پایا ہوا، مذکور، نووارد، آمد۔جمع واردات: درآمدات وصولیاں، منافع آمدنی۔واردات و صادرات: درآمدات و برآمدات۔مُوَرِّد: بہم رساں، ٹھیکیدار۔مُستَورِد: درآمد کنندہ۔مُستَورَدات: درآمد شدہ چیزیں، سامان، درآمدات۔وَرَّدَ: درخت کا پھولنا، پھلنا، بہار پر آنا، شگوفوں سے بھرنا، پھولوں سے لدنا۔۔۔ہ: پر سرخی لگانا، گلگونہ لگانا، کا بناؤ سنگار کرنا، کو سرخ رنگنا۔تَوَرَّدَ: سرخ ہونا یا ہو جانا، گلابی رنگ کا ہونا، (رخسار کا) سرخ ہو جانا، رخسار پر سرخی دوڑ جانا، رخسار کا تمتمانا۔اِوْرادَّ: بمعنی تَوَرَّدَ۔

وَرْد (اسم جمع واحد وَرْدَة) جمع وُرُود: گلاب کا پھول، شگوفے، پھول، کلی، لال سرخی، گال کی سرخی۔ وَرْدَة: گلاب (کا پھول)، سجاوٹی گلاب، طرۃ، گلاب کی جھاڑی، واشل، پستن کا باندھنے کا چھلا۔وَرْدِی: گلابی، گلابی رنگ کا۔وَرْدِیَة: تختہ گل، گلستان۔

وَرْدَة: سرخی مائل رنگ۔مُوَرَّد: گلابی، سرخ۔مُوَرِّد: گلابی۔

ورس: وَرَسَ۔وُرُوساً النبتُ: نباتات کا سبز ہونا۔ وَرِسَ یَوْرَسُ وَرَساً الصخرُ: چٹان کا کائی سے ہری اور پھسلن والی ہونا۔وَرَّسَ الثوبَ: کپڑے کو ورس میں رنگنا۔اَوْرَسَ الشجرُ: درخت کا پتوں والا ہونا۔۔۔المکانُ: جگہ کا ورس والی ہونا۔الوارِسُ من الثیاب: سرخ کپڑا۔الوارسُ الحُمرة: سخت سرخ۔الوَرْس (ن): ایک قسم کی گھاس جو رنگائی کے کام آتی ہے۔اور اس سے زعفران بنائی جاتی ہے۔ الوَرِس من الثیاب: سرخ کپڑا۔الوَرْسِی و الوَرِیس و المُوَرَّس: ورس سے رنگا ہوا۔ جبال الاوراس: مشرقی الجیریا میں اوراس پہاڑ۔

ورش: وَرَشَ یَرِشُ وَرْشاً و وُرُوشاً: لالچ کرنا اور رذیل کاموں کے پیچھے لگنا۔۔۔شیئاً من الطعام: کوئی کھانا حرص سے کھانا۔۔۔ہُ بفلان: کو کے ذریعے بھڑکانا۔۔۔علی القوم: بغیر بلائے کھانے والوں کے پاس پہنچنا۔کہا جاتا ہے: تَرِشُ علَیّ: میری بات نہ کاٹو۔وَرَّشَ تَوْرِیشاً بین القوم: لوگوں کو بھڑکانا۔اَرَّشَ تاریشاً بھی کہا جاتا ہے۔ الوَرْش (مص): دودھ سے تیار کیا ہوا کھانا۔الوَرَش: پیٹ کا درد۔الوَرْشَة (ب): ورکشاپ۔الوَرَشان م وَرَشانة جمع وِرْشان و وَراشِین (ح): قمری۔

۲وَرِشَ یَوْرَشُ وَرَشاً: چست چالاک اور خوش طبع ہونا صفت وَرِش م وَرِشة جمع وَرِشات۔ ولدٌ وَرِشٌ: نچلا نہ بیٹھنے والا لڑکا (عام زبان میں)۔

۳وَرَشَ یَرِشُ وَرْشاً علی: کے منصوبوں میں مداخلت کرنا، اپنے آپ کو کسی پر ٹھونسنا۔وَرَّشَ: امن خراب کرنا، تباہ کرنا، مصیبت کھڑی کرنا۔وَرِش: خوش طبع، چست، پھرتیلا، ہر وقت کام میں لگا رہنے والا، بے تاب، بے قرار۔وارِش: سر پر سوار ہونے والا، خواہ مخواہ دخل دینے والا، ناخواندہ مہمان، طفیلی۔وَرْشَة جمع وَرْشات و وِرَش: ورکشاپ۔ورشة الاصلاح: سروس اسٹیشن۔ورشة غسیل: دھوبی گھاٹ۔

ورص: وَرَصَ یَرِصُ ورصاً و وَرَّصَ و اَوْرَصَتِ الدجاجةُ: مرغی کا انڈے دینا۔المَورِص جمع اَوْراص: پائخانہ۔

ورض: وَرَّضَ: چراگاہ تلاش کرنا۔

ورط: وَرَّطَهُ: کو مشکل میں ڈالنا، ایسی پریشانی میں ڈالنا جس سے نکلنا جانا ہو۔۔۔إبلَه فی إبلٍ اخری: اپنے اونٹوں کو دوسرے اونٹوں میں چھپانا۔وَارَطَ وِراطاً و مُوارَطَةً ہُ: کو دھوکا دینا۔اَوْرَطَہُ: کو مشکل میں ڈالنا۔۔۔الشیءَ: کو چھپانا۔تَوَرَّطَتِ الماشیةُ: مویشی کا کیچڑ والی زمین یا کسی جگہ میں پھنسنا۔ ۔۔۔الرجُلُ: مشکل یا پریشانی میں پھنسنا یا پڑنا، ہلاک ہونا۔اِستَوْرَطَ: ہلاک ہونا۔۔۔فی أمرٍ: ناقابل خلاصی مشکل میں پھنسنا۔کہا جاتا ہے: اِستورط فی حبالتی: وہ میرے جال میں پھنس گیا۔الوَرْطَة جمع وَرَطات و وِراط: کیچڑ، سخت کیچڑ، بے راستہ پست زمین یا میدان، کنواں، تنگ گڑھا ہلاکت، ہر مشکل کام جس سے خلاصی مشکل ہو۔الوِراط: دھوکہ، فریب۔

۲الوَرْطَة جمع وَرَطات و وِراط: دُبر۔

۳وَرَّطَ و اَوْرَطَ ہ فی: کو (مشکلات) میں الجھانا، پھنسانا، مبتلا کرنا، کو ناگوار صورت حال میں ڈالنا، کو بری پریشانی میں مبتلا کرنا۔تَوَرَّطَ: مشکلات میں پھنسنا، مصیبت میں پڑنا۔۔۔فی: میں پھنسنا، الجھنا، مبتلا ہونا۔اِستَوْرَطَ فی: میں الجھ جانا، پھنسنا، مبتلا ہونا۔ وَرْطَة جمع وَرَطات و وِراط: مشکل یا تشویش ناک صورت حال، مشکل، پریشانی، دہری مشکل، برا حال، بری حالت، ناگوار صورت حال، خطرناک صورت، تکلیف دہ حالت، مشکل، پریشانی، بند ہونا، گڑ بڑ، بری پریشانی، الجھاؤ۔تَوَرَّطَ فی: میں الجھنا، پھنسنا۔مَورُوط: بری حالت میں، بری پریشانی میں، بری مشکل، اور بری مشکل میں، خطرناک صورت میں۔ مُوَرَّط: بمعنی مَوْرُوط۔

ورع: وَرَعَ یَرَعُ وَرَعاً و وَرْعاً و وَرُوعاً و وُرُوعاً: گناہ سے دور رہنا، شبہات اور گناہوں سے باز رہنا۔صفت وَرِع۔۔۔وَرْعَةً و وَراعَةً و وُرْعَةً و وَراعاً و وُرُوعاً و وُرْعاً و وُرُعاً: کمزور ہونا، بزدل ہونا، حقیر ہونا۔وَرِعَ یَرِعُ وَراعَةً عن کذا: سے رکنا، باز رہنا۔یَرِعُ و یَوْرَعُ وَرَعاً و وَرْعاً و وَرُوعاً و وُرُوعاً: گناہ سے دور ہونا، شبہات اور معاصی سے رکنا۔صفت وَرِع۔ وَرُعَ یَورُعُ وَرْعَةً و وَراعَةً و وُرْعَةً و وَراعاً و وُرُوعاً و وُرْعاً و وُرُعاً: کمزور ہونا، بزدل ہونا، حقیر ہونا۔وَرَعاً و وَرْعاً و وَرُوعاً و وُرُوعاً: گناہ سے دور ہونا، شبہات و معاصی سے رکنا، باز رہنا۔صفت وَرِع۔وَراعَةً و وُرْعاً و وُرُوعاً: معمولی مال والا ہونا۔وَرَّعَ الفرسَ: گھوڑے کو لگام سے روکنا۔۔۔الإبلَ عن الماء: اونٹوں کو پانی پر

سے واپس لانا۔ ۔ و اَورَعَ فلاناً عن کذا: کو سے
روکنا۔ ۔ بینهما: کے مابین آڑ بننا۔ کہا جاتا ہے: ما
وَرَّعَ ان فعل کذا و کذا: اس نے اس بات کو
نہیں جھٹلایا کہ اس نے ایسا ویسا کیا۔ تَوَرَّعَ من او
عن کذا: سے بچنا۔ السِرعَۃ و الرِیعۃ: معاصی و
شبہات سے اجتناب، پرہیز۔ الـوَرَع (مص):
معاصی اور شبہات سے پرہیز۔ ـــــ جمع اَوْرَاع:
تقوی، پرہیزگاری۔ رَجُلٌ وَرَعٌ: بزدل کمزور جس
کے پاس کوئی قابلیت نہ ہو۔ الوَرِع: پرہیزگار۔ الوَرِیع:
روکنے والا۔

۲۔ وَارَعَ مُوَارَعَۃً: سے بات چیت کرنا، مشورہ کرنا۔

۳۔ الرِعَۃ: حالت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ حسنُ الرِعَۃ
او سیءُ الرِعَۃ: فلاں شخص اچھی یا بری حالت میں
ہے۔

ک ورِعَ یـرِعُ وَرَعـاً و وَرُعَ وَرَاعَۃً: دین دار، خدا
ترس، پارسا یا متقی ہونا۔ تَوَرَّعَ عن: سے رکنا، کے
بارے میں محتاط ہونا، ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متامل
ہونا، تامل کرنا۔ ـــــ من / عن: سے باز رہنا، احتراز
کرنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، محترز رہنا۔ وَرَع: خدا
ترسی، پارسائی، تقوی، زہد و اتقا، احتیاط، چوکسی،
بزدلی، شرم، حیا، ضبط، کم آمیزی۔ وَرِع: خدا ترس،
پارسا، متقی، پرہیزگار، دیندار، محتاط، کم آمیز، کم گو۔

ورف: ۱۔ وَرَفَ یَرِفُ وَرْفاً و وَرِیفاً و وُرُوفاً و رِفَۃً
الظلُ: سایہ کا دراز و فراخ ہونا۔ ـ النباتُ: نباتات
کا سرسبز و شاداب ہونا اور لہلہانا صفت: وَارِف۔
وَرَّفَ النباتَ الناضرَ: تر نباتات کو چوسنا۔ ـــ و
اَورَفَ الظلُ: سایہ کا دراز و فراخ ہونا۔ الـرِفَۃ
(مص): سرسبز نباتات۔ الرُفَۃ: بھوسہ۔ الوَرْف
(مص): جگر کے پتلے کنارے۔ وَرْفُ الشجرِ و
وَرَفُہُ: درخت کا لہلہانا، درخت کی خوشنمائی۔

۲۔ وَرَّفَ الارضَ: زمین کو تقسیم کرنا۔

ک وَرَفَ یَـرِفُ وَرْفـاً و وَرِیـفاً و وُرُوفاً: (سایہ کا)
پھیلنا، لمبا ہونا، (پودے کی) کونپل پھوٹنا، پودے کا
سبز ہونا، سرسبز ہونا، ہرا بھرا ہونا، پھولنا، پھلنا، بہار پر
آنا۔ وَرَّفَ و اَورَفَ: سایہ کا پھیلنا، لمبا ہونا۔
وَارِف: پھیلا ہوا، دراز (سایہ)، سبز، سرسبز ہرا بھرا،
بہار پر آیا ہوا، پھولا پھلا۔

ورق: اَوَرَقَ یَرِقُ وَرْقاً الشجرُ: درخت کا پتے دار
ہونا۔ ـــ الشجرَ: درخت کے پتے اُتارنا۔ وَرَّقَ
الشجرُ: درخت کا پتے دار ہونا۔ ـــ الشجرَ:
درخت کے پتے اتارنا۔ اَوْرَقَ الشجرُ: درخت کا
پتے دار ہونا۔ ـــ الرجُلُ: بہت مال دار ہونا۔ ـــ
الطالبُ: اپنا مطلوب نہ پانا۔ ـ الصائِدُ: شکاری کو
شکار نہ ملنا۔ ـــ الغازی: مالِ غنیمت سے محروم ہونا،
مالِ غنیمت پانا (ضد)۔ تَـوَرَّقَ الظبیُ: ہرن کا پتے
کھانا۔ اِیراقٌ و اوراقٌ یُوْرِاقُ ایریقاقاً العنبُ:
انگور کا رنگ پکڑنا۔ صفت: مُـورَاق۔ الـوَارِق و
الـوَرِیق من الشجرِ: پتے دار درخت، بہت پتوں
والا درخت، خوبصورت پتوں والا درخت۔ شـجـرۃ
وَارِقَۃ و وَرِیـقَۃ: بہت خوبصورت و سبز پتوں والا
درخت۔ الرِقَۃ: نصی گھاس کی ابتدائی سرسبزی، گرمی
کے موسم کی بارش کے بعد سرسبز زمین۔ ـــــ جمع
رِقُون: درہموں کے سکے۔ الـوَرِق و الوِرْق و
الـوَرْق جمع اَوْرَاق و وِرَاق: روپیہ پیسہ (سکے کی
شکل میں)۔ الـوَرَق: ہر زندہ حیوان، (روپیہ پیسہ کی
شکل میں) مویشی زمین پر پڑے ہوئے خون وغیرہ کا
گول ٹکڑا۔ وَرَقُ الکتاب: کتاب کا ورق۔ واحد
وَرَقَۃ جمع وَرَقات۔ وَرَقُ الشباب: جوانی کی
شادابی۔ وَرَق: خوبصورتی، چمک دمک، آب و تاب
اور خوش قامتی سے استعارہ کے طور پر بھی آتا ہے۔
الوَرَقَۃ (ز): پتہ (درخت نباتات کا)۔ ـــــ عند
المکلّسین: کوٹ (coating) پلستر (اس سے
فعل بنا کر کہتے ہیں: وَرَّقَ الحائطَ: اس نے دیوار
پر پلستر کیا، کہگل کیا)۔ الـوَرِق: درہموں کے سکے،
روپیہ پیسہ۔ جمع اوراق و وِرَاق۔ ـــ من الشجر:
پتے دار درخت، بہت پتوں والا درخت، خوبصورت
پتوں والا درخت۔ شجرۃٌ وَرِقَۃ: بہت سبز اور خوبصورت
پتوں والا درخت۔ الـوَرَقَۃ فی القـوس: کمان کا
نقص۔ الوَرَاق: گھاس سے زمین کی سرسبزی۔ الوِرَاق:
پتوں کے نکلنے کا وقت۔ الوِرَاقَۃ: کاغذ سازی کا پیشہ۔
الـوَرَّاق: کاغذ والا، کاغذ بیچنے والا، کاغذ بنانے والا،
کاتب، بہت روپے پیسے والا۔ کہا جاتا ہے: التجارۃُ
مُورِقَۃ لـلـمال: تجارت دولت مند بنانے والی چیز
ہے۔ الـمُـوَرِّق (فا): کاغذی کاغذ والا، کاغذ بنانے
والا (ب): پلستر کرنے والا، سفیدی کرنے والا۔

۲۔ الوُرْقَۃ: مٹیالا رنگ۔ الأَوْرَق م وَرْقَـاء جمع
وُرْق: خاکستری رنگ کا، راکھ کا۔ عـامٌ اَوْرَقُ: خشکی کا
سال۔ زمانٌ اَوْرَقُ: قحط کا زمانہ۔ الـوَرْقَاء جمع
وَرَاقِ و وَرَاقَی: اورق کا مؤنث: فاختہ (ن): ایک
چوڑے گول نرم پتوں والا درخت۔ (ح): مادہ
بھیڑیا۔

ک وَرَّقَ: پتے نکلنا، پھوٹنا، سوئے نکلنا، شاخیں نکالنا۔ ـــ
۵: (کتاب کے) ورق پلٹنا، (دیواروں پر) آرائشی
کاغذ لگانا۔ اَوْرَقَ: پتے نکلنا، پھوٹنا، سوئے نکلنا،
شاخیں نکالنا (درخت پودوں کا)۔ وَرَق: اسم جمع
واحد وَرَقَۃ جمع اَوْرَاق: پتے، کاغذ، نوٹ، زرکاغذ،
بنک نوٹ، پتلی چادر کی دھات، تہہ بتہہ دھات۔
ورق تمغۃ: سٹامپ یا ٹکٹ لگا کاغذ۔ ورق الرسم:
ڈرائنگ کا کاغذ۔ ورق مُـزَرْکَش: دیواری کاغذ،
دیواری پردے۔ ورق الـسَّـنْفَـرۃ: ریگمال ورق
الشاهدۃ: کاربن پیپر۔ ورق مَطْبُوع: سٹامپ، مہریا
ٹکٹ لگا کاغذ۔ ورق عـادِم: ردّی کاغذ۔ ورق
مُقَوّی: کارڈ بورڈ، دفتی گتا۔ ورق الکتابۃ: لکھنے کا
کاغذ۔ ورق اللعب: تاش کے پتے۔ ورق اللَّفّ:
لپیٹنے کا کاغذ۔ ورق نَشَّاش یا نَشَّاف: بلاٹنگ پیپر،
ورق نقدی: نوٹ، زرکاغذی۔ ورق الیانصیب:
لاٹری ٹکٹ۔ اوراق الأشغال: تجارتی کاغذات۔
اوراق الاعتماد: کاغذات نمائندگی، مراسلہ تعارف
تصدیق نامہ (credentials)۔ اوراق
الحکومۃ: حکومتی بونڈز۔ اوراق القضیۃ: عدالتی
ریکارڈ۔ اوراق مالیہ: نوٹ، زرکاغذی۔ اوراق
نـقـدیۃ و ورق الـنـقـد: بنک نوٹ، نوٹ، زر
کاغذی۔ حِبرٌ علی ورق: کاغذ پر صرف سیاہی،
بے نتیجہ (معاہدہ وغیرہ)۔ طرح الاوراق علی
المائدۃ: کارڈ میز پر رکھنا، اپنے منصوبے ظاہر کرنا۔
وَرَقَۃ: پتہ، پتی، کاغذ کا تختہ سلپ، نوٹ، کارڈ، ٹکٹ،
دستاویز، ریکارڈ، کاغذ، دھات کی پتلی چادر۔ ورق
البرید: پوسٹ کارڈ۔ ورق البنک: بینک نوٹ۔
ورقۃ مـدمـوغۃ: سٹامپ لگا کاغذ۔ ورقۃ لعب:
تاش کا پتہ۔ ورقۃ مالیہ: بینک نوٹ، بونڈ، سیکورٹی۔
ورقۃُ الاتّہام: فرد جرم۔ نقود ورقیۃ: نوٹ، زر
کاغذی۔ وَرِق: پتے دار، سبز ہرا بھرا، بہار پر آیا ہوا۔
وَرَّاق: کاغذ بنانے والا، سٹیشنر (stationer) سامان
کتابت بیچنے والا)، ردّی فروش، نقل نویس۔ وِرَاقَۃ:
کاغذ سازی، سٹیشنری کا کاروبار، سامان کتابت بیچنے
والے کا پیشہ۔ مُوَرِّق: سامان کتابت بیچنے والا۔ وَارِق:
بمعنی وَرِق۔ مُورِق: پتے دار۔

ورك: اَوَرَكَ یَرِكُ وَرْکاً: سرین پر سہارا لینا۔ ـــــ
الرجُلَ: کے سرین پر مارنا۔ ـــ الشیءَ: کو سرین
کے مقابل کرنا۔ ـــ وُرُوکاً: ایک پہلو پر ٹیک لگانا،
زمین پر سرین رکھ کر لیٹنا۔ ـــ الراکبُ: اترنے یا
آرام لینے کے لئے سرین کو موڑنا۔ ـ بالمکان: کسی
جگہ اقامت کرنا۔ وَرِكَ یـورِكُ وَرَکـاً: الوَرِكُ:

کولہے کا بڑا ہونا۔ وَرَّکَ الحبلَ او الرحْلَ: رسّی یا کاٹھی کو سرین کے مقابل کرنا۔ ۔۔ الراکبُ: دوزانو بیٹھنے والے کی طرح ٹانگوں کو موڑنا اور سرین کو کاٹھی پر رکھنا۔ تَوَرَّکَ: سرین پر سہارا لینا۔ ۔۔ الشیءَ: چیز کو سرین پر رکھنا۔ ۔۔ الراکبُ: اترنے یا آرام کرنے کے لئے سوار کا اپنی ٹانگوں کو موڑنا۔ ۔۔ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ۔۔ عن الامر: میں دیر کرنا۔ ۔۔ للرحْلِ: کی ٹانگوں کو باندھنا۔ کہا جاتا ہے: تَوَرَّکَ لَهُ فصَرَعَهُ: اس نے اس کی ٹانگوں کو باندھ کر زمین پر پٹک دیا۔ تَوَارَکَ: سرین پر سہارا لینا۔ الوَرْکُ والوَرِکُ (مؤنث) جمع اَوْرَاک: سرین، چوتڑ۔ کہا جاتا ہے: قعد الملاحُ علی وَرِکِ السفینة: ملاح کشتی کے پچھلے حصہ پر بیٹھا۔ هُم عَلَی وَرْکٍ واحدٍ: وہ میرے خلاف اکٹھے ہوگئے۔ الوَرِکُ: کمان کا کنارہ یا تانت باندھنے کی جگہ۔ ۔۔ (مؤنث) جمع اَوْرَاک (ع ا): سرین، چوتڑ۔ الوارِکُ و الوَرِکُ جمع وُرُک و المَوْرِکُ و المَورِکة من الرحْلِ: کجاوہ کا وہ حصہ جس پر سوار تھک کر پاؤں رکھتا ہے۔ الوَرْکَی: خبر کی اصلیت۔ کہا جاتا ہے: ان عنده لَوَرْکَی الخبر: یقیناً اس کے پاس خبر کی اصلیت ہے۔ الأَوْرَکُ م وَرْکَاء جمع وُرْک: بڑے سرین والا۔ المَوْرِکُ: کجاوہ کا اگلا حصہ۔ المَوْرِکَة: کجاوہ کا اگلا حصہ، وہ گدی جیسی چیز جس کو سوار اپنے سرین کے نیچے رکھتا ہے۔

۲۔ وَرَکَ یَرِکُ وُرُوکًا علی الامر: پر قادر ہونا۔ وَرَّکَ علی الامر: پر قادر ہونا۔ ۔۔ الشیءَ: کو واجب کرنا۔ ۔۔ الذنبَ علیه: پر گناہ کا الزام لگانا۔ ۔۔ الیمینَ: قسم میں قسم کھلانے والے کے خلاف نیت کرنا۔ وَارَکَ مُوَارَکَةً الجبلَ: پہاڑ سے گزرنا۔ تَوَرَّکَ علی الامر: پر قادر ہونا۔ المُوَرَّکُ (مفع): کہا جاتا ہے: انه لمُوَرَّکٌ فی هذا الامر: وہ اس معاملہ میں بے قصور ہے۔

○ وَرْک، وِرْک، وَرِک (مؤنث) جمع اَوْرَاک: کولہا، پٹھا، ران، جانگھ۔

ورل: الوَرَلُ مؤنث وَرَلَة جمع وِرْلان و اَوْرَال و اَرْؤُل (ح): گوہ کے مانند ایک جانور۔

○ وَرَل جمع وِرلان و اورال: ایک قسم کی آبی چھپکلی جو مگرمچھ کے آنے کی اطلاع دیتی ہے۔

ورم: وَرِمَ یَرِمُ وَرَمًا و تَوَرَّمَ الجلدُ: جلد کا سوجنا صفت: وَارِم۔ ۔۔ انفُ فلان: غضبناک ہونا۔ ۔۔ النبتُ: نباتات کا دراز اور موٹا ہونا۔ وَرَّمَ الجلدَ: جلد کو متورم کرنا۔ ۔۔ انفَ فلان: کو غضبناک کرنا۔ ۔۔ بأنفه: تکبر کرنا۔ اَوْرَمَ اِیرامًا فلانًا و بفلان: کو غضبناک کرنے والی باتیں سنانا۔ کہا جاتا ہے: فَعَلَ به ما اَوْرَمَهُ: اس نے اسے ناراض کر کے غضبناک کیا۔ الوَرَم (مص) جمع اَوْرَام: سوجن۔ الأَوْرَم: لوگ یا بہت لوگ۔ کہا جاتا ہے: ما اَدْرِی ای الأورَم هو: میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ المَورم: سوزش۔ المُوَرَّم (مفع): قوی ہیکل آدمی۔

○ وَرَم جمع اَوْرَام: سوجن، ورم، آماس، گومڑا، سخت ابھار، گلٹی، دنبل۔ فی انفه ورم: وہ مغرور ہے، متکبر ہے، خود پسند ہے۔ تَوَرُّم: سوجن، ابھار۔ وارم: سوجا ہوا۔ مُوَرَّم: سوجا ہوا متورم۔

ورن: ۱۔ وَارَنَ مُوَارَنَةً: کے آمنے سامنے ہونا، مقابل ہونا۔ تَوَرَّنَ: بہت تیل ملنا، ناز و نعم میں پلنا۔

۲۔ الوَرَنُ (ح): ایک قسم کی مچھلی۔

○ وَرَن: ایک قسم کی آبی چھپکلی جو مگرمچھ کے آنے کی اطلاع دیتی ہے۔

○ وَرْنَش ہ: پروارنش کرنا (فرنیچر وغیرہ) پر سنہری پالش لگانا، جاپان وارنش کرنا۔ وِرْنِیش: وارنش، سنہری پالش، جاپانی روغن، بوٹ پالش۔ وِرْنِیش الأرضیة: فرش پر لگانے والی موم۔

وره: وَرِهَ یَوْرَهُ وَرَهًا: بے وقوف ہونا صفت: اَوْرَه م وَرْهَاء۔ ۔۔ تِ الریحُ: ہوا کا بہت چلنا۔ وَرِهَ یَرِهُ وَرَهَاتِ المرأةُ: عورت کا چربی دار ہونا صفت: وَرِهَة۔ تَوَرَّهَ فلانٌ فی عمل هذا الشیءِ: کو مہارت سے نہ کرنا۔ الوَارِهُ: کشادہ، فراخ۔ الوَرِهَةُ من السحاب: بہت بارش برسانے والا بادل۔

○ وَرْوَار: شہد کی مکھیاں کھانے والا جانور۔ وَرْوَار۔

○ اَوْرَه مونث وَرْهاء: بے وقوف، گونگا، بے زبان، خوف زدہ، ستم رسیدہ، گستاخ، شوخ، ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا۔

وری: ۱۔ وَرَی یَرِی وَرْیًا الرجلَ: کے پھیپھڑے پر مارنا۔ القیحُ جوفَهُ: پیپ کا کے شکم کو خراب کرنا، گلانا، اسم: الوَرْی۔ وُرِیَ الرجلُ: کے پھیپھڑے میں پیپ پڑنا، صفت: مَوْرُوٌّ و مَوْرِیٌّ۔ الوَرْیُ (مص): پیٹ کی پیپ یا پھیپھڑوں کی نالی کا زخم۔ الوَرِی: وَرْی کا اسم۔

۲۔ وَرَی یَرِی وَرْیًا و رِیَةً تِ النارُ: آگ کا جلنا۔ ۔۔ و وَرِیَ یَرِی وُرِیًّا و رِیَةً الزند: چقماق کا آگ نکالنا۔ صفت: وارٍ۔ وَرَّی تَوْرِیَةً النارَ: آگ [illegible] الزند: چقماق سے آگ نکالنا۔ اِسْتَوْرَی الزندَ: چقماق سے آگ نکالنا۔ کہا جاتا ہے: استوریتُهُ رایَهُ: میں نے اس سے اس کی رائے دریافت کی۔ الزندُ الوارِی والوَرِیُّ: آگ نکالنے والا چقماق۔ رِیَةُ النارِ و وَرِیَّتُها: آگ سلگانے کا چیتھڑا وغیرہ

۳۔ وَرَی یَرِی وَرْیًا و رِیَةً تِ الابلُ: اونٹ کا موٹا اور چربی دار ہونا۔ وَرِیَ یَرِی وَرْیًا المخُّ: گودے کا ٹھوس ہونا۔ وَرَّی تَوْرِیَةً الشیءَ: کو چھپانا۔ ۔۔ عن کذا: حقیقت کو چھپانا۔ ۔۔ الخبرَ و عن الخبر: کو پیچھے کرنا اور چھپانا۔ ۔۔ عن فلان بصرَهُ: سے آنکھ پھیر لینا۔ وَارَی مُوَارَاةً الشیءَ: کو چھپانا۔ تَوَرَّی تَوَرِّیًا و تَوَارَی تَوَارِیًا عنه: سے چھپنا۔ الوَارِی: موٹی چربی۔ الوَرَاء: دیکھو مادہ وراء۔ الوَرِیُّ: موٹی چربی، کمزور، پڑوسی، مہمان۔ لحمٌ وَرِیٌّ: موٹا گوشت۔

۴۔ الوَرَی: مخلوق۔ ابُو الوَرَی: زمانہ

○ وَرَی یَرِی وَرْیًا: جلنا، سلگنا، مشتعل ہونا، جل اٹھنا، بھڑک اٹھنا، آگ لگنا۔ وَرَّی: بمعنی وَرَی یری و وریا نیز وَرَّی: رگڑ سے آگ جلانا۔ ۔۔ ہ: کو چھپانا، مخفی رکھنا، چھپا رکھنا۔ ۔۔ عن ب: کو سے اشارہ کرنا، کو سے تلمیح کرنا، کنایہ کرنا۔ ۔۔ ب: کا بہانہ کرنا، کچھ بننا، کا حیلہ کرنا، تصنع کرنا، کا جھوٹا اظہار کرنا۔ وَارَی ہ: کو مخفی رکھنے کی کوشش کرنا۔ ۔۔ ہ ہ: کو میں چھپانا۔ ۔۔ ہ: کو چھپانا، کو نقاب سے ڈھانپنا۔ وَارَاهُ التـرابَ: کو دفن کرنا، کو قبر میں اتارنا، کو مٹی دینا۔ اَوْرَی: بمعنی وَرَی یری: رگڑ سے آگ جلانا۔ تَوَرَّی عن/من: اپنے آپ کو سے چھپانا۔ تَوَارَی: (بمعنی تَوَرَّی) ۔۔ عن/عن الانظار: کی نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ الوَرَی: انسان، فانی انسان۔ خیرُ الوَرَی: سب مردوں سے افضل، رسول کریم۔ وَرَاءَ: کے پیچھے، کی پشت پر، کے بعد، کے پار، کے دوسری طرف، کی دسترس سے باہر، کی طاقت سے باہر، سے باہر، سے اوپر، کے پاس سے ہو کر آگے، پاس سے آگے، کے علاوہ، مزید برآں، علاوہ ازیں۔ وَرَاءُ: پیچھے، عقب میں۔ الی الوراء: پیچھے۔ کَانَ وَرَاءَ ہ: کے پیچھے کھڑا ہونا، کا طرف دار ہونا، کی حمایت کرنا، تائید کرنا، کی مدد کرنا۔ ماوراءَ الأردن: دریائے اردن سے پرے۔ ماوراءَ الاکمة؟: اس کی تہہ میں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وراءَ الأکمةِ ماوراءَ هَا: کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، بات کچھ اور ہے۔ ماوراء البحر: سمندر پار، پردیس۔

ماوراء الطبيعة: مافوق الفطرت، ماورائی، مابعد
الطبیعات، الٰہیات مِن وَرَاءِ —: کے پیچھے، کے
پیچھے سے، کے پار، کے دوسری طرف، کی دسترس سے
باہر، کی طاقت سے باہر، سے باہر، سے اوپر، کے پاس
سے ہوکر آگے، کے علاوہ، کے ذریعے۔ التکسب
من وراء الدعارة: پیشہ ورانہ طوائفیت۔ کان من
وراء مقدرة العقل البشری انسان کی قوت فہم کی
دسترس سے باہر ہونا۔ وَرَائِی: پیچھے کا، پیچھے، پیچھے
واقع، پیچھے کا رخ کئے ہوئے۔ وَرَّی لِ: کو بہتر طور پر
چھپانے والا۔ تَوْرِيَة: چھپانا، ایک بات کو دوسری کے
پردے میں چھپانا، زمانہ سازی، مکاری، ریاکاری،
منافقت، فریب، مکر، ریا، گول مول بات، ابہام، ہیر
پھیر، لفظی ہیر پھیر، ذومعنی لفظ، تلمیح، کنایہ۔

وز الوَزّ مونث وَزَّة جمع وَزَّات: بط۔ (الاوَزّ
کے بجائے) ارضٌ مَوَزَّةٌ: بہت بطوں والی زمین۔
۲ وَزْوَزَ وَزْوَزَةً: جسم کو ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے
ہوئے چلنا، جلدی کودنا۔ الوَزْوَاز: جسم کو حرکت دیتے
ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنے والا —
والوُزَاوِزَة: او چھا پست قد آدمی، ایک پرندہ۔ المُوَزْوِز
(فا): گانے والا، چہچہانے والا۔
وَزَّ — وَزًّا ه علی: کو کے خلاف اکسانا۔ وَزَّ بمعنی
اَزَّ۔

وزا وَزَأَ يَوْزَأُ وَزْءًا اللحمَ: گوشت کو خشک کرنا۔
۲ وَزَأَ يَوْزَأُ وَزْءًا القومَ: بعض کا بعض کو ہٹانا —
القوم: بعض کو بعض سے ہٹانا۔ وَزَّأَ توزِئَة و
تَوْزِيئًا الفرسُ براكبه: گھوڑے کا اپنے سوار کو
گرانا۔
۳ وَزَّأَ تَوْزِئَةً و توزيئًا فلانًا: سے سخت قسم کھلانا۔
۴ وَزَّأَ توزئة و تَوْزِيئًا القربةَ: مشک بھرنا۔ تَوَزَّأَ
الوِعاءُ: برتن کا بھر جانا — الرجلُ: خوشنمائی میں
بھرپور ہونا۔

وزب: وَزَبَ يَزِبُ وُزُوبًا الماءُ ونحوُهُ: پانی وغیرہ کا
بہنا۔ اَوْزَبَ إيزابًا فی الأرض: پانی کی طرح
زمیں میں چلا جانا۔ الوَزَّاب: ماہر چور۔ المِيزَاب
و المِئْزَاب جمع مَيَازِيب و مَآزِيب: (کبھی
مَوَازِيب بھی کہا جاتا ہے): پرنالہ (فارسی لفظ)۔
مِيزَاب جمع مَيَازِيب: پرنالہ، نالی، سڑک کی نالی،
گندہ نالہ، بدرو۔ اِنفتحتْ ميازيبُ السماءِ:
آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے۔

وزر وَزَرَ يَزِرُ وَزْرًا و وِزْرًا الشیءَ: چیز کو اٹھانا۔
— الرجلُ: بوجھل چیز اٹھانا۔ وَزُرَ الرجلُ: پر
غالب آنا — وِزَارَةً للملك: ملک کا وزیر ہونا۔
و وَزِرَ يَوْزَرُ وَزْرًا و وِزْرًا و وِزْرَةً: گنہگار ہونا۔
وُزِرَ وَزْرًا و وِزْرًا و وِزْرَةً: گنہگار ہونا —
فلانٌ: پر گناہ کا الزام لگایا جانا۔ آزَرَ مُوَازَرَةً ہ
علی الأمر: کو کام میں مدد دینا، قوت پہنچانا — ہ:
کی مدد کرنا، کا وزیر ہونا۔ اَوْزَرَ إيزارًا الشیءَ: کو
لے جانا۔ تَوَزَّرَ لَهُ: کا وزیر ہونا۔ اِتَّزَرَ: چھوٹا کمبل
اوڑھنا، گناہ کرنا — بثوبه: کپڑے کو چھوٹے کمبل کی
طرح اوڑھنا۔ اِسْتَوْزَرَ ہُ: کو اپنا وزیر بنانا — الشیءَ:
کو لیجانا۔ الوِزْر (مص) جمع أَوْزَار: گناہ، بوجھ،
بھاری بوجھ، کپڑوں کی گٹھری۔ اوزار الحرب: جنگ
کا ساز و سامان اور ہتھیار۔ کہا جاتا ہے وضعت الحرب
اوزارها: لڑائی ختم ہو گئی۔ الوِزْرَة جمع وِزْرَات
و وِزِرَات و وِزَرَات: چھوٹا کمبل۔ الوِزَارَة و
الوَزَارَة: وزیر کا عہدہ اور مدت۔ الوَزِير جمع
وُزَرَاء و أَوْزَار: وزیر۔ وزير العدلية: وزیر انصاف۔
وزير الداخلية: وزیر داخلہ۔ وزير الخارجية:
وزیر خارجہ۔ المَوْزُور (مفع): گناہ کا مرتکب، گناہ
سے متہم۔
۲ وَزَرَ يَزِرُ وَزْرًا الثُّلمةَ: رخنہ بند کرنا۔ اَوْزَرَ إيزارًا
الرجُلَ: کو پناہ دینا — الشیءَ: کو چھپانا، کو محفوظ
کرنا۔ الوَزَر: جائے پناہ، اونچا پہاڑ، گڑھ، مرکز۔
وَزَرَ يَزِرُ وِزْرًا ہ: (بوجھ) اٹھانا۔ وَزَرَ يَزِرُ و وَزِرَ
يَوْزَرُ وِزْرًا و وَزْرًا و وِزْرَةً: گناہ کا ارتکاب کرنا۔
وَآزَرَہ علی: میں کی مدد کرنا۔ آزَرَہ: کی تائید کرنا،
حمایت کرنا، کی پشت پناہی کرنا، کے بازو مضبوط کرنا۔
تَوَازَرَ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اِتَّزَرَ: لنگوٹ
باندھنا، گناہ کرنا — ہ: لباس پہننا۔ وِزْر جمع
اوزار: بوجھ، بھاری بوجھ، بار، گناہ، جرم، ذمہ داری۔
حَمَّلَهُ وِزْرَهُ: کو کی ذمہ داری برداشت کرانا، کو کے
لئے جوابدہ قرار دینا۔ وِزْرَة جمع وِزَرَات: لنگوٹی،
لنگوٹ۔ وَزَرَة جمع وَزَرَات: لہنگا، لہنگے کا کپڑا۔
تَوَزَّرَ: وزیر بن جانا۔ اِسْتَوْزَرَہُ: کو وزیر بنانا۔
اِسْتَوْزَرَ: وزیر مقرر ہونا۔ وَزِير جمع وزراء:
(کیبنٹ) وزیر، ملکہ (شطرنج میں)۔ وزيرٌ بلا وزارة:
قلمدانِ وزارت کے بغیر وزیر۔ وزيرٌ مُفَوَّضٌ:
مدار المہام (minister plenipotentiary)
مقيم وزير: ریزیڈنٹ وزیر۔ الوزير الاكبر:
وزیراعظم۔ رئيس الوزراء: وزیراعظم۔ مجلس
الوزراء: کیبنٹ (cabinet)۔ وِزَارَة (جمع
وزارات): وزارت، کیبنٹ، حکومت۔ وزارة الارشاد
القومی: قومی رہنمائی کی وزارت۔ وزارة الاستعلامات:
وزیر اطلاعات۔ وزارة الاشغال العمومية:
پبلک ورکس کی وزارت۔ وزارة الاوقاف: وزارت
اوقاف۔ وزارة البحرية: وزارت بحریہ۔ وزارة
التجارة: وزارت تجارت۔ وزارة التربية: وزارت
تعلیم۔ وزارة الحربية: وزارت جنگ۔ وزارة
الحقانية: وزارت انصاف۔ وزارة الخارجية:
وزارت خارجہ۔ وزارة الداخلية: وزارت داخلہ۔
وزارة الزراعة: وزارت زراعت۔ وزارة الشؤون
الاجتماعيه: وزارت سماجی بہبود۔ وزارة الشؤون
البلدية و القروية: وزارت امور شہری و دیہاتی۔
وزارة الصحة العمومية: عوامی صحت کی وزارت،
وزارت صحت۔ وزارةُ الطَّيَرَان: وزارت فضائیہ۔ وزارة
العدلية یا وزارة العدل: وزارت انصاف۔ وزارة
المالية: وزارت خزانہ۔ وزارة المعارف: وزارت
تعلیم۔ وزارةُ المواصلات: وزارت مواصلات۔
وِزَارِی: وزارتی۔

وزع: وَزَعَ يَزَعُ و يَزِعُ وَزْعًا الجيشَ: فوج کو
ترتیب وار صفوں میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے رأيتُهُ يَزَعُ
الجيشَ: میں نے اسے فوج کو لڑائی کے لئے ترتیب
اور صفوں میں رکھتے دیکھا — فلانا و بفلان: کو
روکنا، منع کرنا۔ وَزَعَ بينهما: کے مابین صلح کرانا۔
اِتَّزَعَ: رکنا، باز رہنا۔ الوَازِع جمع وَزَعَة و
وُزَّاع: فوج کے معاملات کا انتظام کرنے والا، جھاڑ
جھپاڑ کرنے والا، کتا۔ الوَزَعَة: وازع کی جمع۔
بادشاہ کے مددگار و محافظ۔ محارم اللہ تعالیٰ سے باز رکھنے
والے حکام۔ المُتَّزِع (فا): ثابت قدم، سخت جان۔
۲ وَزَعَ يَزَعُ و يَزِعُ وَزْعًا فلانا بفلانٍ: کو کے
خلاف بھڑکانا۔ اَوْزَعَهُ بكذا: کو پر ورغلانا۔ صفت:
مُوزَع۔ — الشیءَ: کو کا الہام کرنا۔ يستوزع
اللهَ شكرَهُ: خدا تعالیٰ سے شکر کی توفیق چاہنا۔
۳ وَزَّعَ المالَ بينهم: مال کو لوگوں کے درمیان
پراگندہ کرنا — المالَ عليهم: مال کو لوگوں میں
تقسیم کرنا۔ وُزِّعَ المالَ: مال تقسیم کرنا —
بينهما: کے درمیان تفریق کرنا۔ تَوَزَّعَ: متفرق
ہونا — القوم المالَ: لوگوں کا مال کو آپس میں تقسیم
کرنا۔ کہا جاتا ہے تَوَزَّعَتْهُ الأفكارُ: اس نے کبھی
اس کی فکر کی کبھی اس کی۔ تَوَزَّعُوا ضيوفَهُم:
مہمانوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے گئے۔
الأَوْزَاع: جماعتیں (اس کا واحد نہیں آتا)۔
وَزَعَ يَزِعُ وَزْعًا ہ: کو قابو میں رکھنا۔ وَزَّعَ ہ

علی بین: کو کے درمیان تقسیم کرنا۔ ــ ہ علی
السی: کو کے لئے مختص کرنا، کو کے نام الاٹ کرنا، کا
حصہ کسی کو دینا، کو میں بانٹنا، تقسیم کرنا۔ ــ ہ (ڈاک)
بانٹنا، تقسیم کرنا۔ وُزِّعَ بین کے درمیان تقسیم کیا جانا۔
تَوَزَّعَ: تقسیم کیا جانا، آپس میں تقسیم کرنا۔ ــ ہ پر
ٹوٹ پڑنا اور اس کو سخت اذیت دینا (پریشانیوں،
خیالات دکھوں کا)۔ اَوْزاع لوگوں کے گروہ یا
ہجوم۔ کے گروہ۔ وزیعة جمع وزائع حصہ،
الاٹ منٹ۔ توزیع تقسیم (فلم انڈسٹری میں بھی)،
الاٹ منٹ، تقسیم (خطوط وغیرہ کی) فروخت،
مارکیٹ۔ توزیعُ الثروة تقسیم دولت۔ توزیعُ
العملِ تقسیم کار۔ توزیع الجوائز تقسیم
انعامات۔ توزیع الارباح منافعوں کی تقسیم یا
ادائیگی۔ توزیعٌ مُستَعجَلٌ (ڈاک کی) غیر
معمولی یا فوری تقسیم/ترسیل۔ وَازِع: رکاوٹ،
مزاحمت۔ مُوَزِّع: تقسیم کنندہ، تقسیم کار۔ مُوَزِّعُ
البرید ڈاکیہ۔ مُوَزَّع: تقسیم کیا ہوا، پراگندہ، بکھرا
ہوا، منتشر۔ مُوَزَّعُ الخواطر یا مُوَزَّعُ الفکر
خیالات میں کھویا ہوا، گم، محو، مستغرق، غافل، پراگندہ
دماغ، غم سے پاگل۔

وزغ: وَزَغَ یَزِغُ وَزْغًا و أَوْزَغَ ببوله: پیشاب تھوڑا
تھوڑا گرانا، پیشاب رک رک کر کرنا۔ أَوْزَغَت الطعنةُ
بالدم نیزے کے گھاؤ سے خون تھوڑا تھوڑا نکلا۔ وَزَّغَ
الجنینُ بچہ کا پیٹ میں صورت اختیار کر کے حرکت
کرنا۔ الوَزَغ کپکپی، رعشہ، بزدل آدمی۔ الوَزَغَة
جمع وَزَغ و وِزاغ و أَوْزاغ و وِزْغان و إِزْغان
(ح) ایک قسم کی چھپکلی۔ الأَوْزاغ کمزور لوگ۔

وزف: وَزَفَ یَزِفُ وَزْفًا و وَزِیفًا جلدی کرنا۔ ــ وَزَفَ
فلانًا سے جلدی کرانا۔ وَزَّفَ تَوْزِیفًا و أَوْزَفَ
إِیزافًا جلدی کرنا۔ وَازَفَ مُوَازَفَةً و تَوَازَفَ
تَوَازُفًا القومُ ایک دوسرے کے نزدیک ہونا۔

وزل: الوَزَّال (ن) بینگ قسم کی جھاڑی۔

وزم: ۱۔ وَزَمَ یَزِمُ وَزْمًا فلانًا بفیه کو منہ سے ہلکا سا
کاٹنا۔ ــ الشیءَ کو توڑنا۔ وُزِمَ وَزْمَةً فی ماله
مال میں نقصان اٹھانا۔ الوَزِم سبزی کا گٹھا، عقاب کا
اپنے گھونسلے میں جمع کیا ہوا گوشت۔ الوَزّام بہت
گوشت اور پٹھوں والا۔ الوَزِیم گوشت کا خشک
ٹکڑا، بڑا چوہا۔ ــ والوَزِیمة سبزی کا گٹھا، عقاب کا
اپنے گھونسلے میں جمع کیا ہوا گوشت۔ رجُلٌ وَزِیمٌ
گٹھے ہوئے گوشت والا آدمی۔

۲۔ وَزَمَ یَزِمُ وَزْمًا و وَزَمَ نفسَهُ دن میں ایک
بار کھانا۔ الوَزْم (مص) مقدار۔ الوَزْمَة دن
میں ایک بار کا کھانا، مقدار۔

۳۔ وَزَمَ یَزِمُ وَزْمًا الدَّیْنَ قرض ادا کرنا۔ الوَزْم
اپنے وقت پر آنے والا کام۔

۴۔ تَوَزَّمَ بہت روندنے والا ہونا۔

۵۔ الوِزام برعت۔ الوَزِیم عند ارباب علم
النباتات نباتات میں پھولوں درختوں وغیرہ میں
مونث عضو۔ الوَزِیمیة (ن) امریکہ کا ایک درخت
جس کے گچھے چاندی رنگ کے ہوتے ہیں، کئی میٹر
لمبے تنے ہوتے ہیں۔ خودرو ہے اور آرائش کے لئے
بھی اُگایا جاتا ہے۔

وزن: ۱۔ وَزَنَ یَزِنُ وَزْنًا و زِنَةً الشیءَ کو تولنا، کا وزن
کرنا۔ کہا جاتا ہے: هذا یَزِنُ رطلاً اس کا وزن
ایک رطل ہے۔ (انگلستان میں ۴۴۹،۲۸ گرام، شام
میں ۳،۲۰۲ کیلوگرام بیروت میں ۲،۵۶۶ کیلوگرام کے
برابر وزن کا پیمانہ)۔ ــ له الدراهم و غیرها کو
روپیہ وغیرہ وزن کر کے دینا۔ ــ الشِعْرَ شعر کی تقطیع
کرنا۔ وَزُنَ یَوْزُنُ وَزَانَةً الشیءُ بھاری ہونا،
بوجھل ہونا۔ صفت: وَازِن۔ ــ الرجُلُ پختہ رائے
ہونا۔ وَزَّنَ و أَوْزَنَ نفسَهُ علی کذا پر اپنا دل
لگانا یا مشغول کرنا۔ وَازَنَ وِزانًا و مُوَازَنَةً ہ کو اس
کے کاموں کا بدلہ دینا، کے سامنے ہونا یا مقابل ہونا،
وزن میں کے برابر ہونا۔ ــ بینَ الشیئینِ وزن
معلوم کرنے کیلئے دو چیزوں کا ایک دوسرے سے
مقابلہ کرنا۔ تَوَازَنَ الشیئانِ باہم برابر ہونا۔
اِتَّزَنَ تُلنا۔ ــ الدراهمَ درہموں کو پرکھنا۔ ــ
العِدْلَ گٹھری کا دوسری کے برابر ہونا۔ ــ الشیءَ
کو وزن کر کے لینا۔ الوَازِن: فا۔ درهمٌ وَازِنٌ
پورے وزن کا درہم۔ الوَزْن (مص) جمع
أَوْزان مثقال۔ هذا درهمٌ وَزْنٌ یہ درہم سرکاری
وزن کا ہے۔ هذا رجُلٌ راجحُ الوزنِ یہ کامل
عقل و رائے والا آدمی ہے۔ هو وَزْنُ الشیءِ او زِنَةُ
الشیءِ او وِزَانَ الشیءِ و بوِزانِه او بوِزَانَتِه وہ
اس کے سامنے ہے یا وزن میں اس کے برابر ہے۔
هو وِزانَ الجبل وہ پہاڑ کی جانب میں ہے۔
الوَزْنَة وزن کا اسم مرہ، بوجھ، کامل عقل و پختہ رائے
والی عورت۔ ــ عند اهالی لبنان تین رطل۔ کہا
جاتا ہے: ما أَکَلَهُ فی الیوم إلا وَزْنَةً واحدة وہ
دن میں ایک بار کھانا کھاتا ہے۔ الوَزْنَة وزن کی
قسم۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ وَزِینُ الرأی فلاں شخص
سنجیدہ رائے والا ہے۔ الاوزن اسم تفضیل۔ زیادہ
وزن دار۔ کہا جاتا ہے: هذا القولُ أَوْزَنُ من غیره:
یہ قول دوسرے سے زیادہ قوی ہے (اس سے زیادہ
وزن دار ہے)۔ هو اوزنُ القوم وہ قوم کا وجیہ ترین
ہے، قوم میں سب سے زیادہ ذی وجاہت ہے۔
الموزُونَة پستہ قد عقل مند عورت۔ المیزان جمع
مَوَازِین ترازو، مقدار، پیمانہ، حساب کی درستی جانچنے
کا طریقہ جیسے جمع وضرب۔ انصاف۔ اِستقام میزانُ
النهار دن آدھا ہو گیا۔

۲۔ الوَزِین اندرائن کے پسے ہوئے دانے۔

C وَزَنَ یَزِنُ وَزْنًا و زِنَةً ہ: کو تولنا، کا وزن کرنا، کا
مقابلہ کرنا، کو ہم پلہ کرنا، کو برابر کرنا، مساوی کرنا۔ کے
وزن کا ہونا۔ ــ ہ ل کوئی چیز کسی کو وزن کر کے دینا،
فروخت کرنا۔ وَازَنَ ہ کا ہم وزن ہونا، کو وزن میں
برابر کرنا، کو ہم وزن کرنا، سے زیادہ وزنی ہونا، کی تلافی
کرنا۔ ــ بین میں وزن برابر کرنا۔ ــ بین ـ و ـ:
کا سے مقابلہ کرنا، ایک چیز کا دوسری کے مقابلہ میں
وزن کرنا۔ ــ بین ـ و بین میں موازنہ کرنا۔ ــ
ہ: کو مساوی طور پر تقسیم کرنا۔ تَوَازَنَ ہم توازن
ہونا۔ وِزنة تولنا، تول۔ وَزْن جمع أوزان وزن،
(شعر کا) وزن، اسم یا فعل کا نمونہ، شکل، جہاز کی ضخامت
ٹنوں میں۔ لا وزنَ له یا عدیمُ الوزنِ: بے
وزن، بے حد ہلکا، غیر اہم، نا قابل ذکر، یونہی سا، بہت
چھوٹا، برائے نام۔ اقام وزناً کبیراً لِ: کو بہت
اہمیت دینا۔ مصلحة الوزن و الکیل ناپ تول
کے پیمانوں کا محکمہ۔ وزنُ الدِیك: کم وزن گھونسے
باز۔ الوزنُ الفارغ خالی وزن۔ وَزْنَة جمع
وَزَنات وزن، بوجھ، چاندی یا سونے کا سکہ، تقریباً
ایک سو کلوگرام کا وزن۔ وزنة اضافیة اضافی وزن،
اضافی بوجھ۔ وِزانَ (کے) حسب حال، (کے)
مناسب، (کا) ہم مقدار، (کے) مماثل، کی مطابقت
میں، کے اچھے نمونہ یا عمدہ مثال کی پیروی میں۔
وَزِین: بہت وزن دار، وزنی، بوجھل، بہت بھاری۔
وزینُ الرأی: قوی رائے والا، مضبوط رائے والا،
معاملہ فہم۔ میزان جمع موازین ترازو، وزن،
بوجھ، پیمانہ، شعر کا وزن، قاعدہ، طریقہ، انصاف، غیر
جانبداری۔ میزانُ الحرارة حرارت پیما۔ میزانٌ
راصد: خود اندراج کرنے والا پیمانہ۔ میزان
طبلی وزن کرنے والی مشین، گاڑی تولنے کی مشین،
سامان تولنے کی مشین۔ میزانُ الماء: سطح آب۔
مِیزانیة: توازن، آمد و خرچ کا توازن، بجٹ۔ میزانیة
مُلحَقَة: ضمنی بجٹ۔ توازن سیاسی سیاسی

توازن۔ تـوازنُ القوٰی: طاقت کا توازن۔ اعادَ التوازن بین: کے مابین توازن بحال کرنا۔ وازِن: وزن کرنے والا، پورے وزن کا، پٹے ہوئے، نشہ میں۔ مَـوزُون: خوب تلا ہوا، وزن کیا ہوا، تولا ہوا، پورے وزن کا، متوازن اچھی طرح غور کیا ہوا، عقل کے تقاضے کے مطابق، ارادی، سوچ سمجھ کر کیا ہوا، ہوشمند، متناسب، صحیح فیصلہ والا، مدبرانہ، معاملہ فہم، بحر میں متوازن۔ متوازن بحر والا۔ مُـوازِن: وزن میں زیادہ، مقابل میں اپنا وزن رکھنے والا، مساوی، برابر، ہم معنی۔ مُـتوازن: متوازن، باہمی توازن رکھنے والا۔ مُتَّـزِن: متوازن محتاط، نپا تلا، موزوں، باقاعدہ، ہوشمند، ہم آہنگ، مطابق۔

وزی: ۱۔ وَزَی یَزِی وَزْیاً الشیءُ: جمع ہونا، اکٹھا ہونا، سکڑنا۔ — الأمرُ فلاناً: کسی بات کا کسی کو غضبناک کرنا۔ الوَزَی: پستہ قد گٹھا ہوا آدمی۔

۲۔ وازَی مُـوازاةً ہ: کے آمنے سامنے ہونا۔ أوْزَی ایـزاءً ظَهرَهُ إلی الحائطِ: دیوار سے پیٹھ لگانا، دیوار سے ٹیک لگانا۔ — إلی فلان: کے پاس پناہ لینا۔ — ہ الیہ: کو کے پاس پناہ لینے پر مجبور کرنا۔ — الشیءَ: کو اٹھانا، سے ٹیک لگانا۔ — لِدارِہ: گھر کی دیواروں کو مٹی سے لیپنا یا کسی اور چیز سے لیپنا۔ تَوازَی تَـوازِیاً التِیْنان: ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ مُتَوازِیُ السطوح: متوازی سطحوں والا Parallelepiped۔

۳۔ اِسْتَوْزَی استیزاءً فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ المُسْتَوْزِی (فا): سیدھا کھڑا ہونے والا۔

۴۔ المُسْتَوْزِی: خودرائے۔

☪ وَازَی ہ: کے متوازی ہونا، قابل ہونا، سے یکساں فاصلہ پر ہونا، کا جوڑ ہونا، کا ثنی ہونا، کے برابر ہونا، سے یکساں ہونا، کے مطابق ہونا، کو (ایک دوسرے کے) برابر کرنا، کسی چیز جتنا ہونا، کے مساوی ہونا، کے مترادف ہونا۔ مُوازاۃ: یکساں فاصلہ، متوازیت، مساوات، برابری، ہم قدری۔ تَوازٍ: یکساں فاصلہ، متوازیت، مساوات، برابری، ہم قدری۔ علی التوازِي: پہلو بہ پہلو، متوازی، سے یکساں فاصلہ پر۔ مُوازٍ: متوازی، برابر کا، ہم پلہ، ہم قیمت، مساوی، مرادف۔ متوازٍ: متوازی، مطابق، مانند، مشابہ، مثل، ملتا جلتا۔ متوازی الاضلاع: متوازی الاضلاع (paralellogram)۔

وس: وَسْوَسَ وِسْواساً و وَسْوَسَةً الشیطانُ لَهُ و الیہ: میں وسوسہ ڈالنا۔ — الرجلُ: عقل کی خرابی سے بے تکی باتیں کرنا، وسوسہ میں مبتلا ہونا۔ صفت: مُوَسْوِس آہستہ بولنا۔ — الحلیُ أو القصبُ: زیور یا نے کا جھنکار پیدا کرنا، آواز نکالنا۔ — الرجلَ: سے آہستہ بات کرنا۔ وُسْوِسَ بہ: کا کلام مختلط ہونا۔ الوَسْواسُ راس جمع وَساوِس: وَسْوَس کا اسم، وسوسہ، شیطان، وہم کی بیماری، دل میں آنے والی برائی یا بے نفع بات۔

وسب: ۱۔ وَسَبَ یَیسِبُ وَسْباً المکانُ: جگہ کا بہت گھاس والی ہونا۔ أوْسَبَ اِیساباً المکانُ: جگہ کا بہت گھاس والی ہونا۔ — الکبشُ: مینڈھے کا بہت اون والا ہونا۔ الوِسْبُ: گھاس۔ المِیساب: نیم پختہ کھجور۔

۲۔ وَسِبَ یَوْسَبُ وَسَباً الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا۔ الوَسَب (مص): میل۔

وسج: وَسَجَ یَسِجُ وَسْجاً و وَسِیجاً و وَسَجاناً تِ الإبلُ: اونٹوں کا تیز چلنا صفت: واسِجَة أوْسَجَ البعیرَ: اونٹ کو تیز چلانا۔ الوَسْج و الوَسَجان و الوَسِیج: اونٹوں کی تیز چال۔ الوَسّاج و الوَسُوج جمع وُسُج من الإبلِ: تیز رفتار اونٹ۔ ابلٌ وُسُوجٌ: تیز رفتار اونٹ۔ (جمع)

وسخ: وَسِخَ یوسَخُ و یَاسَخُ و یَیْسَخُ وَسَخاً الشیءُ: پر میل چڑھنا، میلا ہونا صفت: وَسِخٌ۔ وَسَّخَ و أوْسَخَ الشیءَ: کو میلا کرنا۔ تَوَسَّخَ واتَّسَخَ واستَوْسَخَ: میلا ہونا۔ الوَسَخ جمع أوْساخ: میل کچیل۔

☪ وَسِخَ یَوْسَخُ وَسَخاً: میلا، آلودہ، نجس یا غلیظ ہونا یا ہوجانا۔ وَسَّخَ و أوْسَخَ ہ: کو گندہ کرنا، میلا کرنا، پر دھبہ ڈالنا، دھبا لگانا، داغ لگانا، کو بد رنگ کرنا۔ تَوَسَّخَ و اِتَّسَخَ: میلا، آلودہ، نجس یا غلیظ ہونا یا ہو جانا۔ وَسَخ جمع أوْساخ: نجاست، غلاظت، میل کچیل، کیچ، کیچڑ، گندگی۔ وَسِخ: گندہ، نجس، غلیظ، میلا، دھبا لگا ہوا، ناصاف۔ وَساخَة: میلا پن، گندگی، غلاظت، نجاست۔

وسد: ۱۔ وَسَّدَہُ الوِسادةَ: کے سر کے نیچے تکیہ رکھنا۔ — الیہ الأمرَ: کسی کام کو کسی کے ذمہ لگانا۔ تَوَسَّدَ الوِسادةَ: تکیہ سر کے نیچے رکھنا۔ — ذراعَهُ: بازو کو سر کے نیچے تکیہ کی طرح رکھنا اور سونا۔ الوَساد و الوِساد و الوُساد جمع وُسُد: تکیہ، سہارا، آسرا، گدی۔ رجُلٌ عریضُ الوساد: کندذہن آدمی۔ إنَّ سارکَ لَعریضٌ: بہت سونے سے کنایہ ہے، یعنی تم بہت سوتے ہو۔ الوِسادة و الوَسادة و الوُسادة جمع وَسائد و وِسادات و وُسادات و وَسائِد: تکیہ۔

۲۔ أوْسَدَ فی السیر: تیز چلنا۔

۲۔ أوْسَدَ الکلبَ بالصید: کتے کو شکار پر اُکسانا۔

☪ وَسَّدَہ ہ: کے سر کے نیچے (تکیہ) رکھنا، کے سر کو پر رکھنا، لٹانا۔ وَسَّدَہُ التراب: کسی شخص یا چیز کو زمین میں لٹانا۔ وَسَّدَہُ صَدرَہُ: کو لپٹا لینا، سینہ سے لگانا، گلے لگانا۔ تَوَسَّدَ ہ: اپنا سر (تکیہ) پر رکھنا، (تکیہ) پر ٹیک لگانا۔ لَزِمَ الوِسادَ: صاحب فرش ہونا۔ مُوَسَّد: آسان، ہموار، فرش بند (سڑک)۔

وسط: وَسَطَ یَسِطُ وَسْطاً وَسِطةً المکانَ او القومَ: جگہ یا لوگوں کے درمیان بیٹھنا صفت: واسِط۔ — وَساطةَ القوم و فیهم: حق و عدل میں اپنی قوم میں متوسط ہونا۔ وَسُطَ یَسِطُ وَساطةً و سِطةً فی حَسَبِہ: شریف ہونا، حسب والا ہونا۔ وَسَّطَ ہُ: کو ثالث بنانا، درمیان میں رکھنا۔ — فی حَسَبِہ: شریف ہونا، حسب والا ہونا۔ — الشیءَ: کو دو ٹکڑے کرنا۔ أوْسَطَ اِیساطاً القومَ: قوم کے بیچ میں داخل ہونا۔ تَوَسَّطَ القومَ او المکانَ: لوگوں یا جگہ کے درمیان بیٹھنا۔ — بینهم: کے مابین ثالث اور صلح کار ہونا۔ — الرجلُ: درمیانی یا اوسط چیز لینا۔ الواسِط (فا): دروازہ، پالان کا اگلا حصہ۔ الواسِطَة: واسط کا مونث: پالان کا اگلا حصہ، ہار کے بیچ کا جوہر جو سب سے عمدہ ہوتا ہے، ذریعہ، سبب (کانَ بِواسِطَةِ کذا: یہ کے ذریعے ہوا) ثالث (فلانٌ فی واسطةِ قومِہ: فلاں اپنی قوم میں سب سے اچھا آدمی ہے۔) الوَسَط: (مذکر، مونث، واحد اور جمع کے لئے): معتدل۔ (شیءٌ وَسَطٌ: خراب اور عمدہ کے درمیان کی چیز۔ اس کی جمع أوساط بھی آتی ہے۔ وَسَطُ الشیءِ: چیز کے دونوں طرفوں کا درمیان۔ جیسے وَسَطُ الحبل و وَسَطُ الدار۔ رجُلٌ وَسَطٌ: اپنی قوم میں صاحب حسب۔ کہا جاتا ہے: هو فی وَسَطِ القومِ و فی وَسْطِهم: وہ قوم کے درمیان ہے۔ ہر جگہ جس میں وسط کی جگہ "بین" رکھنا موزوں ہو۔ وَسْط و وَسَط دونوں طرح مستعمل ہے جیسے: وَسْطَ القوم و وَسَطَ الحبل۔ الوَساطَة (مص): ثالثی۔ الوُسُوط: متوسط، درمیانی، بالوں کا خیمہ یا چھوٹا خیمہ۔ وُسُوطُ الشمسِ: سورج کا بیچ آسمان پر آنا۔ الوَسِیط جمع وُسَطاء مونث وَسِیطَة: ثالث۔ هو وَسِیطٌ فیهم: وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلند مقام اور شریف النسب رکھتا ہے۔ الوسیط (فی

القطوع المَخرُوطِيَّة): نصف وتر۔ الأوسَط
جمع اَوَاسِط: متوسط، معتدل۔ اَوْسَطُ الشيءِ:
چیز کے دوطرفوں کے درمیان۔ العِلمُ الأوسَطُ:
علم ریاضی۔ اسے حکمت وسطی بھی کہتے ہیں۔
الوُسطَیٰ جمع وُسَط: اَوسط کا مؤنث۔ ـــ من
الأصابع: بیچ کی انگلی۔ مُوسَطُ البیت: گھر کا
درمیانی حصہ۔ المُتَوَسِّط: فا۔ مثلث میں خط مستقیم
کا ٹکڑا جو چوٹی اور بالمقابل ضلع کے نصف کو ملاتا ہے۔
وَسَّطَ ہ: کو درمیان میں رکھنا۔ ـــ ہ بین: کو کے
درمیان ثالث چننا یا مقرر کرنا۔ تَوَسَّطَ ہ: کے
درمیان یا مرکز میں ہونا۔ ـــ لِ ب: کے لئے کی ثالثی
کرنا۔ ـ بین: کے درمیان ثالثی کرنا۔ ـ فی: میں
ثالثی یا بچولے کے طور پر کام کرنا۔ تَوَسُّط: درمیان
میں کھڑا ہونا، درمیانہ میں رہنا، دو انتہاؤں میں درمیانی
چیز لینا، درمیانی راستہ پر چلنا۔ وَسط و وَسُط
جمع اَوسَاط: درمیان، مرکز، قلب، کمر، معاشرتی
ماحول، ماحول، گرد و پیش، گرد و نواح، دائرہ، حلقہ،
ذریعہ، آلہ، سبب، عامل (جمع عوامل) اوسط درجے کا
ہونا، اوسط خوبی، اوسط، عام معیار جمع: حلقے، طبقے،
طبقات۔ وَسَط جمع اَوسَاط: وسطی، وسطانی،
درمیانہ، مرکزی، درمیان میں، سڑک کا درمیان، بیچ،
معتدل، دو انتہاؤں میں درمیانی، اوسط، اوسط درجے
کا۔ وَسَطَ: کے درمیان، قلب یا مرکز میں، کے
درمیان۔ فی وَسَطِ مِن: کے درمیان، کے اندر۔
فی الوَسَط: بالکل مرکز میں، درمیانی کوالٹی کا۔ فی
وَسطنا: ہمارے درمیان۔ وسط الصیف: عین
موسم گرما، موسم گرما کا شباب، سخت گرمی کے ایام۔
حجمٌ وَسَط: درمیانی سائز۔ حل وسط:
درمیانی حل، درمیانہ راستہ، بین بین کا فیصلہ۔
السِّیرةُ الوسط: درمیانی چال، درمیانی رفتار،
معتدل اور غیر جانبدارانہ رویہ۔ الاوساط الدبلو
ماسیة: سفارتی حلقے۔ الاوساطُ العامة: عوام۔
اوساط الناس: درمیانہ طبقے۔ وَسَطِی و
وُسطِی: ماحول یا معاشرتی ماحول کا یا کے متعلق۔
وَسطانِی: درمیانی، مرکزی، وسطی، اوسط، اوسط
درجے کا۔ وُسطِیَة جمع وُسطِیَات: آنگن،
انگنائی، اندرونی صحن۔ وِسَاطَة: ثالثی، مداخلت، مدد،
سفارش، شفاعت، بیچ میں پڑنا۔ بِوِسَاطَةِ: کے
ذریعے۔ علی وساطة فلان: کی مدد سے۔ قَدَّم
وساطته لِ: کے لئے اپنی مدد پیش کرنا۔ وَسِیط
جمع وُسَطَاء: درمیانی، ثالث، وسطی، وسطانی،
مصالحت کی کوشش کرنے والا، سفارش کرنے والا،
شفاعت کنندہ، بچولا، تاجر، دوکاندار، دلال، ایجنٹ۔
العصر الوسیط: قرون وسطی۔ وَسِیطة جمع
وَسَائط: ذریعہ۔ وسائط المواصلات والنقل:
ذرائع مواصلات ونقل وحمل۔ اَوْسَط جمع
اَوَاسِط م وُسطَی جمع وُسَط: درمیانہ، مرکزی۔
الوُسطَی: درمیانی انگلی۔ فی اَوَاسِطِ هذا الأسبوع:
اس ہفتہ کے وسط میں۔ اَوَاسِطُ الشهر: مہینہ کا
درمیان۔ اواسط الفریقیة: وسطی افریقہ۔ اوروبا
الوُسطَی: وسطی یورپ۔ الشرق الأوسط:
مشرق وسطی۔ الطبقات الوُسطَی: متوسط طبقے۔
القرون (یا العصور) الوُسطَی: قرون وسطی۔
نتیجة وُسطَی: درمیانہ نتیجہ، اوسط۔ تَوَسُّط:
ثالثی، مصالحت کی کوشش، مداخلت، وسط یا درمیان
صورت حال یا وضع اوسط درجے کا ہونا۔ وَاسِطَة
جمع وَسَائط: ثالث، ایجنسی، ذریعہ، مصلحت،
چارۂ کار۔ بِوَاسِطَةِ: کے ذریعے۔ بالواسطة:
بالواسطہ، بوساطت۔ بهذه الواسطة: اس ذریعہ
سے۔ بواسطة ذلك: اس ذریعے سے۔ واسطة
الاتصال: کڑی، رابطہ۔ مُتَوَسِّط: درمیانی،
درمیانی چیز، درمیانی آدمی، درمیانی منزل، وسطی، بیچ
کا، اوسط درجے کا، درمیانی حیثیت کا، متوسط، مرکز
میں واقع، مرکزی، ثالث، بچولا، اَوسط۔ متوسطُ
الحال: اوسط ذرائع والے۔ متوسطُ الحجم:
درمیانے سائز کا، درمیانے حجم کا۔ متوسط العمر:
درمیانی عمر کا۔ متوسطُ القامة: درمیانے قد کا۔
متوسط النوع: درمیانی کوالٹی کا۔ البحر
الابیض المتوسط: بحیرہ روم۔ موجاتٌ
مُتَوَسِّطَة: درمیانے درجے کی لہریں۔ متوسط
الهجوم: سنٹر فارورڈ center forward۔

وسع: وَسِعَ يَوْسَعُ وَسْعًا اللهُ عليهم رزقَهُ: لوگوں
کو اللہ تعالیٰ کا رزق کو بکثرت دینا اور اس میں فراخی
دینا۔ وَسِعَ علیه: کو مالدار بنانا۔ وَسِعَ يَسَعُ
وَيَسِعُ سَعَةً و سِعَةً المكانُ: جگہ کا کشادہ اور
فراخ ہونا۔ ـــ الشیءَ: کو وسیع کرنا۔ (هذا الاناء
یسع عشرین کیلاً: اس برتن میں بیس کیل سماتے
ہیں۔ وسعت رحمة الله کُلَّ شیء و لِکُلِّ
شیءِ و علی کُلِّ شیئ: اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر
چیز کو گھیر لیا ہے۔ اللّٰهُمَّ سَعْ علینا: اے خدا اپنی
رحمت کو ہم پر وسیع کر۔ ما اَسَعُ هذا: میں اس کی
طاقت نہیں رکھتا۔ لا يَسَعُكَ أن تفعل هذا:
تمہارے لئے یہ کرنا جائز نہیں یا تم یہ نہیں کر سکتے۔
وسع القومَ فضلُهُ: اس کا فضل و کرم لوگوں پر عام
ہوا۔ وسع المالُ الدینَ: مال اتنا زیادہ ہوا کہ اس
نے تمام قرض چکا دیا)۔ وَسُعَ یَوْسُعُ سَعَةً و وَسَاعَةً
المكانُ: جگہ کا کشادہ و فراخ ہونا۔ ـــ الفرسُ:
گھوڑے کا کشادہ قدم ہونا۔ وَسَّعَ: کشادہ کرنا۔
اَوْسَعَ: بہت مال دار ہونا، کشادہ کرنا۔ ـ الموضعَ:
جگہ کو کشادہ پانا۔ ـــ ہُ الشیءَ: سے کسی چیز کو کشادہ
کرانا۔ ـ النفقةَ: بہت خرچ کرنا۔ ـ اللّٰه علیه:
اللہ تعالیٰ کا کسی کو مالدار کرنا۔ تَوَسَّعَ: کشادہ ہونا۔ ـ
القومُ فی المكان: لوگوں کا جگہ میں کشادگی کرنا۔
ـــ الرجُلُ فی النفقةِ: بہت خرچ کرنا۔ اِتَّسَعَ:
کشادہ ہونا۔ ـــ النهارُ و غیرُهُ: دن وغیرہ کا دراز و
لمبا ہونا۔ ـــ الرجُلُ: مالدار ہونا۔ اِسْتَوْسَعَ: کشادہ
ہونا۔ ـــ الشیءَ: چیز کو فراخ پانا یا فراخ چاہنا۔
الوَاسِع (فا): کشادہ، فراخ۔ ـــ فی الاسماء
الحُسنی: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں بہت دینے والا
سوال پورا کرنے کیلئے کافی اور ہر چیز پر محیط کے معنی
میں ہے۔ السَّعَة: اقبال مندی، تونگری، آسودگی،
طاقت، قدرت۔ ـــ والوُسْعَة والتَوسِعَة:
وسعت۔ الوَسْع والوِسْع والوُسْع: طاقت۔ کہا
جاتا ہے: لیس فی وسْعِهِ أن یفعل کذا: وہ ایسا
کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ الوَسَاعُ من الخیل:
عمدہ و کشادہ قدم گھوڑا۔ الوَسِیع: کشادہ۔ ـــ من
الخیل: کشادہ قدم گھوڑا۔

وَسُعَ یَوْسُعُ وَسَاعَةً: فراخ ہونا، کشادہ ہونا، وسیع
ہونا، گنجائش والا ہونا، دور تک پھیلا ہوا ہونا، بہت
بڑا ہونا، لق و دق ہونا، لمبا چوڑا ہونا، بڑے رقبہ کا ہونا۔
وَسِعَ یَسَعُ سَعَةً: فراخ ہونا، کشادہ ہونا، وسیع
ہونا، گنجائش والا ہونا، دور تک پھیلا ہوا ہونا، آسودہ
ہونا، خوشحال ہونا۔ ـ ہ/: کو جگہ دینا، کے لئے نشستیں
رکھنا، کو بٹھانا، کے لئے جگہ رکھنا، کے لئے گنجائش
رکھنا۔ ـ ہ: پر مشتمل ہونا، کو شامل ہونا، پر محیط ہونا، کو
شامل کرنا، داخل کرنا، کے گرد حلقہ ڈالنا۔ ـــ ہ/ہ:
کے لئے کافی بڑا ہونا، کے لئے کافی ہونا۔ وَسِعَ
یَسَعُ وُسْعًا و سَعَةً ہ: (خصوصاً نفی کے ساتھ)
کے لئے ممکن ہونا، کے لئے جائز ہونا، کی طاقت میں
ہونا۔ ـ ہ: کو کرنے کے قابل ہونا، کو کرنے کی اجازت
دیا جانا۔ لا یسعنی أن اقول: میں نہیں کہہ سکتا۔ ما
أسع ذلك: میں وہ نہیں کر سکتا۔ وَسَّعَ ہ: کو مزید
کشادہ کرنا، کو زیادہ گنجائش والا کرنا، کو زیادہ کھلا کرنا،

زیادہ وسیع کرنا، کو پھیلانا، کو لمبا کرنا، بڑا کرنا، وسیع کرنا۔ — ہ/من کو چوڑا کرنا، بڑا کرنا۔ — ہٗ کو چوڑا کرنا، فراخ کرنا، وسیع کرنا۔ — علی کی جانب سخی ہونا، فیاض ہونا، دریادل ہونا۔ — ہ ہٗ کی طرف کے ساتھ سخی، فیاض یا دریادل ہونا۔ — علی کو امیر کرنا، کو مالا مال کرنا۔ وَسَّعَ خُطَاہُ: لمبے ڈگ بھرنا، اپنے قدم تیز کرنا۔ وَسَّعَ المکانَ لِ: کے لئے جگہ بنانا۔ اَوْسَعَ بمعنی وَسَّعَ نیز اَوْسَعَ امیر ہونا یا ہو جانا۔ اَوْسَعَہٗ بِرًّا: کے ساتھ انتہائی تعظیم سے پیش آنا، پر بہت مہربانی کرنا۔ اَوْسَعَہٗ شتمًا: پر گالیوں کی بوچھاڑ کرنا۔ اَوْسَعَہٗ ضربًا: کی خوب پٹائی کرنا، کو کوڑے مارنا، چابک لگانا۔ اَوْسَعَ النفقۃَ: بہت خرچ کرنا۔ تَوَسَّعَ وسیع ہونا، فراخ ہونا، کشادہ ہونا، پھیلنا، کافی جگہ رکھنا، آرام سے بیٹھنا۔ — فی میں اپنے آپ کو آرام دہ، سکھی یا مطمئن کرنا، بے تکلفی سے بیٹھنا، پر تفصیل سے روشنی ڈالنا، پر مفصل کہنا یا لکھنا، کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا یا لکھنا، کو جاری رکھنا، میں رہنا۔ تَوَسَّعَ فی النفقۃ بہت خرچ کرنا۔ اِتَّسَعَ وسیع ہونا، فراخ ہونا، کشادہ ہونا، بڑا ہونا، پھیلنا، چوڑا ہونا، بڑھنا، زیادہ ہونا، دور تک پھیلنا، وسیع ہونا، بہت بڑا ہونا، کے مابین ہونا، امیر ہو جانا، بہت بڑا (ہونا)۔ — لِ: کے لئے کافی ہونا، کو جگہ دینا، کے لئے جگہ رکھنا، کے ہاتھ میں، کے سپرد یا کی تحویل میں ہونا، کے قابل ہونا۔ — ہٗ کو کرنے کے قابل ہونا، کو کرنے کا اہل ہونا، کے کرنے جوگا ہونا، کو کر گزرنے والا ہونا۔ بِکُلِّ مَا تتسع لہ الکلمۃُ من معنی: لفظ کے وسیع ترین مفہوم میں۔ اِسْتَوْسَعَ: وسیع ہونا، فراخ ہونا، کشادہ ہونا، زیادہ چوڑا ہو جانا، زیادہ بڑھ ہو جانا، حجم میں بڑھنا۔ — ہٗ کو فراخ، کشادہ یا بڑا پانا۔ سَعَۃٌ کشادگی، فراخی، کافی جگہ یا گنجائش رکھنا، لمبائی، طول، رقبہ، درجہ، حد، دائرہ، میدان، وسعت، رسائی، پہنچ، حجم، گنجائش، ظرف، سمائی، رکھنے کی گنجائش، قابلیت، لیاقت، اہلیت، طاقت، صلاحیت، قدرت، آرام، آسودگی، افراط، بہتات، کثرت، وفور، دولت اور مال کی کثرت، فضول خرچی، عیش و عشرت، ناز و نعمت، تعیش، دولت مندی، مرفہ الحالی، تونگری، دولت کی بہتات، مال و دولت فراوانی۔ ذو سَعَۃٍ خوش حال، مالدار، دولتمند، امیر۔ بِسَعَۃٍ یا عن سَعَۃٍ: کثرت سے، افراط سے، بہتات سے۔ علی الرُّحب والسعۃِ: خوش آمدید۔ علی قدرِ سَعَتِی اپنی بہترین صلاحیتوں سے۔

کان فی سَعَۃٍ مِن رزقِہ دولت مند ہونا، عیش و عشرت میں زندگی گزارنا۔ سَعَۃُ الصَّدْرِ صبر، صبر سے برداشت کرنے والا (رویہ وغیرہ)۔ سعۃ کَھْرَبائِیَّۃٌ برقی وسعت۔ سَعَۃُ الموجۃ لہر کی فراوانی۔ وُسْعٌ قابلیت، لیاقت، اہلیت، صلاحیت، استعداد، گنجائش، وسعت، ظرف، سمائی، طاقت، قوت، رکھنے کی گنجائش۔ فی وُسْعِہِ ان: یہ اس کی استطاعت میں ہے کہ ...... وہ ...... کر سکتا ہے۔ فی وُسْعِی أن اقول: میں کہہ سکتا ہوں۔ لیس فی وُسْعِہِ اِلا: اس کے پاس کوئی اور امکان نہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتا مگر ...... بَذَلَ وُسْعَہٗ حتی المقدور کوشش کرنا، اپنی پوری کوشش کرنا، (میں) کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ وَسَع فراخی، کشادگی، پھیلاؤ، وسیع فضا یا جگہ۔ وُسْعَۃٌ: کشادگی، وسعت، گنجائش، فراخی، حد درجہ، احاطہ، گھیرا، پہنچ، رسائی، افراط، فراوانی، بہتات، کثرت۔ وَسِیع جمع وِسَاع فراخ، کشادہ، وسیع، کھلا ہوا، بڑا، گنجائش والا، لمبا، چوڑا، چوڑا چکلا۔ اَوْسَع زیادہ وسیع، زیادہ کشادہ، زیادہ بڑا، زیادہ گنجائش والا۔ اَوْسَعُ صدرًا زیادہ صابر۔ أَوْسَعُ مَدًی زیادہ چوڑا، فراخ، یا کشادہ۔ تَوْسِیع فراخ کرنا، کشادہ کرنا، چوڑا کرنا، فراخی، وسعت، کشادگی، پھیلاؤ، لمبائی، چوڑائی، ایزادی، زائد حصہ، توسیع، کلام کی طوالت، طول کلامی، اضافہ، بیشی، بڑا ہو جانا، ترقی۔ اَجَلُ التوسعۃ عارضی مہلت، سزا میں مہلت۔ تَوَسُّع: پھیلاؤ، وسیع ہونا، اضافہ کرنا، توسیع، وسعت، چوڑا یا وسیع کرنا یا ہونا، بڑھنا یا بڑھانا، اضافہ، ترقی۔ مَعَ التوسع وسیع تر مفہوم میں، وسعت سے۔ توسعٌ استعماریٌّ: سامراجی توسیع۔ توسعُ الحرب: جنگ کا پھیلاؤ۔ سیاسۃُ التوسع: توسیع کی پالیسی۔ تَوَسُّعِی توسیع کا حامی (ملک یا تجارت کی)۔ سیاسۃ توسعیۃ: توسیع کی پالیسی، توسیع پسندانہ پالیسی۔ اِتِّسَاعٌ فی الکلام: اظہار کا ابہام۔ عدمُ الاتساع لِ: کی کمی، کی کسر، کے لئے ناکافی ہونا۔ واسِعُ الانتشار دور تک پھیلا ہوا، عام۔ واسع الصدر: صابر، برداشت کرنے والا، سخی، بہت مہربان، شفیق، مشفق، فراخ دل۔ واسِعُ النطاق دوررس، وسیع، قابل فہم، وسیع پیمانہ کا۔ رَجُلٌ واسعُ الحِیلۃ: باتدبیر طباع آدمی۔ شارِعٌ واسِعٌ: چوڑی سڑک، کشادہ سڑک۔ مَوْسُوعَۃ جمع مَوْسُوعات: قابل شمول تصنیف، انسائیکلو پیڈیا (encyclopedia)، لغات قاموس، مخزن (معلومات)۔ مَوْسُوعِی انسائیکلو پیڈیا کا یا سے متعلق۔ مُوْسِع امیر، دولت مند۔ مُتَّسِع: وسیع، کشادہ، فراخ، بڑا، گنجائش والا، بہت، بافراط، بکثرت، کافی۔ مُتَّسَع جگہ گنجائش۔ لم یجد مُتَّسَعًا من الوقت لِ یا لم یکن فی الوقت متسع لِ: کے لئے کافی وقت نہ رکھنا یا کافی وقت نہ ہونا۔ مُتَّسَعٌ حَیَوِیٌّ: زندہ رہنے کے لئے جگہ۔

وسف: وَسَّفَ تَوْسِیفًا الشیءَ: کو چھیلنا۔ تَوَسَّفَ الشیءُ: چھلنا۔ — البعیرُ اونٹ کا موٹا ہونا اور اس کے پہلے بال گر کر نئے بال اُگنا۔ — ت اَوْبَارُ الإبلِ: اونٹوں کے بال جھڑ جانا۔

وسق: ۱۔ وَسَقَ یَسِقُ وَسْقًا الشیءَ: کو اٹھانا، جمع کرنا۔ — البعیرَ اونٹ پر بوجھ لادنا۔ — ت الناقۃُ وغیرُھا: اونٹنی وغیرہ کا حاملہ ہونا۔ صفت: وَاسِق جمع وَاسِقات و وِساق نیز مُوَاسِق و مَوَاسِیق (قیاس کے خلاف)۔ — العینُ الماءَ: آنکھ کا تر ہونا۔ کہا جاتا ہے: لا افعل ذلک ما وسقت عینی الماءَ: جب تک میری آنکھیں تر ہیں میں اس کو نہیں کروں گا یعنی کچھ نہیں کروں گا۔ — ت النخلۃُ: کھجور کے درخت کا پھلدار ہونا۔ بحری فوج کے لوگ کہتے ہیں: وَسَقَ السفینۃَ اس نے جہاز پر بوجھ لاد دیا۔ — وَسِیقًا البعیرَ اونٹ کو ہانکنا۔ وَسَّقَ الحنطۃَ: گندم کو کھیپوں میں تقسیم کرنا۔ وَاسَقَ مُوَاسَقَۃً ہٗ: کا مقابلہ کرنا، کے برابر ہونا۔ اَوْسَقَ اِیسَاقًا الدابۃَ: جانور پر بوجھ لادنا۔ — ت النخلۃُ: کھجور کے درخت کا بہت پھل دار ہونا۔ اِتَّسَقَ الأمرُ: کام کا ترتیب میں ہونا۔ — ت الإبلُ: اونٹوں کا جمع ہونا۔ — القمرُ: چاند کا پورا ہونا۔ اِسْتَوْسَقَ اِستیساقًا: اکٹھا ہونا۔ — الأمرُ: کام کا ترتیب میں ہونا۔ — لہٗ الأمرُ: کے لئے کام کا ممکن ہونا۔ الوَسْق (مص) جمع اَوْساق: سات صاع، اونٹ کا بوجھ۔ — جمع أَوْسَاق و وُسُوق: کھجور کے درخت کا بوجھ۔ الوَسِیق (مص) دھتکار، بارش۔ الوَسِیقَۃ: حاملہ۔ ناقۃ وسیقۃ: حاملہ اونٹنی۔ — من الإبل جمع وَسَائِق: اونٹوں کا ریوڑ۔ المُتَّسِق: چاند کا ایک نام۔ — عند اھل العروض: اوزان شعر میں ایک وزن جس کا نام متدارک بھی ہے، جو آٹھ بار فَعِلُنْ پر مشتمل ہے۔

۲۔ المِیساق جمع مَیَاسِیق و مَآسِیق من الحمام: بڑے بازوؤں والا کبوتر، وہ پرندہ جو اڑنے میں پر پھڑ پھڑائے۔

وَسَقَ يَسِقُ وَسْقًا ہ: جہاز یا کشتی پر کوئی چیز لادنا۔
اَوْسَقَ: بمعنی وَسَقَ۔ اِتَّسَقَ: ترتیب میں ہونا،
اچھی ترتیب میں ہونا۔ ـــ مع: سے ہم آہنگ ہونا،
کے مطابق ہونا، کے موافق ہونا۔ اِسْتَوْسَقَ لِ: کے
لئے ممکن ہونا یا ہو جانا۔ وَسْق جمع وُسُوق و
اَوْسَاق: بوجھ، لے جایا جانے والا مال، جہاز کی کھیپ،
بار جہاز۔ اِتِّسَاق: ہم آہنگی، مطابقت میل۔ مُتَّسِق:
اچھی طرح مرتب، متوازن، ہم آہنگ، مطابق۔
وِسْكِي: وِسکی (شراب)۔

وسل: وَسَلَ يَسِلُ وَسِيلَةً و وَسَّلَ و تَوَسَّلَ إِلَى
اللّٰه بِعَمَلٍ او وَسِيلَةٍ: کسی کام یا وسیلہ سے اللہ
تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا۔ صفت: وَاسِل۔ الوَاسِلَة
و الوَسِيلَة جمع وَسِيل و وَسَائِل و وُسُل:
تقرب کا ذریعہ، بادشاہوں کے ہاں مرتبہ، درجہ۔

تَوَسَّلَ إِلى: کے دل میں گھر کرنا، کا منظور نظر بن جانا،
کے نزدیک عزیز یا مقبول ہونا، مورد عنایات ہونا، تک
رسائی چاہنا، کی مہربانی کا خواہاں ہونا، کی منت سماجت
کرنا، سے التماس کرنا، التجا کرنا۔ ـــ ب: کی مدد مانگنا،
سے درخواست کرنا، کو بطور ذریعہ استعمال کرنا،
(ذریعہ) استعمال کرنا۔ وَسِيلَة جمع وَسَائِل:
ذریعہ، تدبیر، ترکیب، مصلحت، چارہ کار، آلہ، آلہ کار،
سبب، عامل (جمع عوامل)، اقدام، قدم۔ وَسَائِلُ
الاحتياط: احتیاطی تدابیر، پیش بندیاں۔ وسائلُ
التعليم: تعلیمی اعانتیں، ترجیحی اعانتیں، سامان
تعلیم۔ وسائلُ التكييف: ایئر کنڈیشنگ کی تنصیبات۔
وسائل المواصلات: ذرائع مواصلات۔ وسائل
النقل: ذرائع نقل و حمل۔ اِبْتَغَى الوسِيلة إلى ب:
کے دل میں کے ذریعے گھر کرنا، کے نزدیک کے
ذریعے مورد عنایات ہونا۔ اِتَّخَذَ منه وسيلةً لِ: کو
کے لئے چارۂ کار سمجھنا۔ تَوَسُّل: درخواست، التماس،
التجا، پُر ولولہ اپیل۔ تَوَسُّلًا إِلى: میں اس ذریعہ سے
کامیاب ہونے کے لئے۔

وسم: وَسَمَ يَسِمُ وَسْمًا و سِمَةً ہ: پر کا نشان لگانا،
کو داغی کرنا، پر داغ لگانا، پر شناخت کا نشان لگانا۔ ـــ
الوَسْمِيُّ: موسم بہار کی پہلی بارش کا زمین پر
پڑنا۔ وَسُمَ يَوْسُمُ وَسَامًا و وَسَامَةً الغلام:
لڑکے کا خوبصورت چہرے والا ہونا۔ ـــ الوجهُ: چہرہ
کا خوبصورت ہونا۔ وَسَّمَ: موسم حج میں مکہ میں
حاضر ہونا۔ وَاسَمَ مُوَاسَمَةً ہ: سے خوبصورتی میں
غالب ہونا۔ تَوَسَّمَ الرجلُ: موسم بہار کی گھاس
تلاش کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو غور سے دیکھنا، کی علامت
طلب کرنا، کو پہچاننا۔ ـــ فيه الخيرَ: میں بھلائی کا اثر
دیکھنا، میں ہونہاری کی علامتیں دیکھنا، سے بہت سی نیکی
کی توقع کرنا، سے بہت امیدیں وابستہ کرنا۔ ـــــ
بالوَسِمَة: وسمہ لگانا۔ اِتَّسَمَ: نشان دار ہونا، ممیز
ہونا۔ السِّمَة (مص) جمع سِمَات: علامت،
داغ کا اثر۔ الوَسْم (مص) جمع وُسُوم (ن):
سبز پتوں والا درخت، علامت، داغ کا اثر۔ الوَسْمَة
و الوَسِمَة: نیل کے پتے یا ایسا پودہ جس کے پتوں
سے رنگ کیا جاتا ہے۔ الوَسْمِي: موسم بہار کی پہلی
بارش۔ الوِسَام جمع اَوْسِمَة: جانوروں پر لگایا ہوا
نشان، تمغہ۔ الوَسَامَة (مص): حسن کا اثر، حسن و
جمال۔ الوَسِيم جمع وُسَمَاء و وِسَام مونث
وَسِيمَة جمع وَسِيمَات و وِسَام: خوبصورت
چہرے والا۔ الأَوْسَم: زیادہ خوبصورت۔ المَوْسِم
جمع مَوَاسِم: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، مکہ
معظمہ میں حاجیوں کے جمع ہونے کا وقت، مکہ میں
حاجیوں کا میلا، بڑی عیدیں۔ ـــ عند اهلِ لبنان:
ریشم کے کام کا زمانہ۔ ـــ عند العامة: ایسا مرض جو
زندگی میں ایک بار لگتا ہے جیسے چیچک۔ المِيسَم جمع
مَيَاسِم: داغ لگانے کا آلہ، حسن و جمال۔ المَوَاسِم:
داغ دیئے ہوئے اونٹ۔

وَسَمَ يَسِمُ وَسْمًا و سِمَةً: جانور پر نشان لگانا،
داغ لگانا، پر نشان لگانا۔ وَسَمَهُ بالعَار: پر بدنامی کا
داغ لگانا، کو بدنام کرنا۔ وُسِمَ جبينُهُ ب: کے چہرہ
پر کچھ لکھا ہونا۔ وَسَّمَ ہ: کو ممتاز کرنا، کو اعزاز عطا
کرنا، کو تمغہ دینا، رتبہ دینا۔ تَوَسَّمَ ہ: کی جانچ
پڑتال کرنا، کو توجہ سے دیکھنا، بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر
دیکھنا۔ ـــ ب: پر کا نشان لگنا، کا خاصہ ہونا، کا وصف یا
نشان ہونا۔ تَوَسَّمَ فيه خيرًا: میں ہونہاری کی
علامتیں دیکھنا، سے بہت سی خوبیوں اور بھلائیوں کی
توقع کرنا، سے بہت سی امیدیں یا توقعات وابستہ
کرنا۔ اِتَّسَمَ: پر نشان یا داغ لگنا۔ ـــ ب: سے
متصف ہونا، کی چھاپ رکھنا۔ سِمَة جمع سِمَات:
نشان، خصوصیت، وصف، خارجی خصوصیت، چہرہ،
چہرہ مہرہ، شکل و صورت، چھاپ، امتیازی وصف، طرہ
امتیاز، نقش، ٹھپا، طبع، اثر، تاثر، امتیازی خصوصیت
فطرت، ویزا (visa) جمع سِمَات: چہرے کا اتار
چڑھاؤ، وضع قطع، چال ڈھال، رویہ، طریقہ، معنی،
مطلب، مفہوم۔ وَسْم جمع وُسُوم: داغ،
چھاپ، مارکہ، قسم، قبائلی نشان، قبائلی چھاپ،
خصوصیت، نشان، نوابی نشان، امیری نشان۔ وِسَام
جمع اَوْسِمَة: بیج، بلا (badge)، تمغہ، میڈل
(medal)، رتبہ، اعزازی بلا یا نشان۔ وِسَامُ
الاستحقاق: حق یا استحقاق کا رتبہ۔ وِسَامُ رَبْطَةِ
الساق: اعلیٰ درجہ کا اعزازی نشان۔ وِسَامُ الشَّرَف
(جَوْقَةُ الشَّرَف): نشانِ اعزاز (فوجی)۔ وَسَامَة:
حسن، جمال، خوبصورتی، دلفریبی، دلکشی، دلربائی، دل
بری، دل آویزی۔ وَسِيم جمع وُسَمَاء و وِسَام:
حسین، خوبصورت، خوش انداز، دلکش، خوش مزاج،
خوبصورت چہرہ)۔ مَوْسِم جمع مَوَاسِم: موسم،
مسرت کا موسم، حج کا تہوار، جشن کا دن، چھٹی، تعطیل،
میلہ، مقررہ تاریخ، آخری مدت، کٹائی، فصل۔
المَوَاسِم و الأعياد: جشن اور چھٹیوں کے دن۔
موسمُ الإصطياف: موسم گرما میں تفریح کا موسم۔
موسمٌ تمثيليٌّ یا موسم مسرحيٌّ: تھیٹروں کا
موسم۔ موسمُ الحج: حج کا موسم۔ موسم القطن:
کپاس کی کٹائی، کپاس کا موسم۔ الريح الموسمية:
مون سون، موسمی ہوائیں (monsoon)۔ مِيسَم
جمع مَوَاسِم و مَيَاسِم: داغ لگانے کا لوہا،
داغنے کا لوہا، داغ، چھاپ، دامن پر داغ۔ مَوْسُوم:
داغا ہوا، بدنام کیا ہوا۔ ـــ ب: سے متصف، کی خصوصیت
والا۔

وسن: اَوسِنَ يَوْسَنُ وَسَنًا و سِنَةً: اونگھنا۔ صفت:
وَسِن و وَسْنَان و مِيسَان مونث: وَسِنَة و
وَسْنَى و مِيسَان: بیدار ہونا، جاگنا۔ ـــ فلانٌ:
کنویں کی بدبو سے بیہوش ہونا۔ اَوْسَنَتْهُ البئرُ: کو
کنویں کا بیہوش کر دینا۔ تَوَسَّنَ ہ: کے پاس نیند کے
وقت آنا۔ اِسْتَوْسَنَ: وَسِن کے معنی میں: السِّنَة
(مص): اونگھ، غنودگی۔ هو في سِنَةٍ: وہ غفلت میں
ہے۔ الوَسَن (مص): اونگھ، غنودگی۔ الوَسْنَة: نیند
کی کمی، اونگھ۔ الوَسْنَى: بہت اونگھنے والا۔ المَوْسُون
مونث مَوْسُونَة: سست، کاہل۔

۲۔ الوَسَن جمع اَوْسَان: حاجت۔

وَسِنَ يَوْسَنُ وَسَنًا و سِنَةً: سونا، محو خواب ہونا۔
وَسَنٌ: نیند، خواب، اونگھ، جھپکی۔ سِنَة: نیند، خواب،
اونگھ، جھپکی۔ سِنَةٌ مِن النوم: ہلکی سی نیند، جھپکی، ذرا
آنکھ لگنا۔ وَسِن: نیم خوابیدہ، اونگھتا ہوا۔ وَسْنَان
مونث وَسْنَى: نیم خوابیدہ، اونگھتا ہوا۔

وسي: وَسَى يَسِي وَسْيًا رأسَهُ: کا سر مونڈنا۔ أَوْسَى
إِيسَاءً الرأسَ: سر مونڈھنا۔ ـــ الشيءَ: چیز کو
کاٹنا۔ المُوسَى جمع مَوَاسٍ: استرہ۔

وَاسَى مُوَاسَاةً الرجلَ: آدمی کی مدد کرنا۔

وش: وَشْوَشَ وَشْوَشَةً فلانًا: سے سرگوشی میں کہنا، کانا پھوسی کرنا۔ ـــ هُ الشیءَ: کوکوئی چیز ہلکے سے پکڑانا۔ تَوَشْوَشَ القومُ: ایک دوسرے سے سرگوشی میں بات کرنا۔ الوَشْوَشُ والوَشْواشُ: ہلکا، تیز رفتار، جلد باز۔ رَجُلٌ وَشْوَشِيُّ الذراعِ: کام میں پھرتیلا مرد۔

ⓒ وَشْوَشَة: سرگوشی، کانا پھوسی۔

وشب: الوَشَبُ: موٹی کھجور وغیرہ۔ الوِشْبُ اوشاب کا واحد: بے ترتیب لوگ، اوباش لوگ۔

وشج: وَشَجَ يَشِجُ وَشَجاتِ الأغصانُ. شاخوں کا ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہونا۔ (کہا جاتا ہے: وَشَجَتْ بك قرابتُهُ. اس کی قرابت تم سے مل گئی۔ وَشَجَتْ فی قلبه أمورٌ وهُمومٌ: اس کے دل میں معاملات اور تفکرات گڈمڈ ہو گئے۔) ـــ و وَشَّجَ مَحْمِلَهُ: ڈولی کو تسمہ وغیرہ سے باندھنا تاکہ کوئی چیز گرنے نہ پائے۔ ـــ اللهُ قرابتَهُ بكُمْ: اللہ تعالیٰ کا کسی کی قرابت تم سے جوڑ دینا۔ ـــ اللهُ بين القومِ: اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو آپس میں جوڑ دینا۔ تَوَشَّجَ و تَواشَجَتْ عروقُ الشجرةِ و نحوها: درخت وغیرہ کی جڑوں کا آپس میں الجھا ہوا ہونا۔ الواشِجُ (فا) مونث واشجة: پیچیدہ۔ الواشِجَة: باہم پیوستہ رشتہ داری۔ الوَشِيجُ: باہم پیوستہ رشتہ داری، رشتہ داری کی باہم ہونگی، تیر بنانے کا درخت، نیزے۔ کہا جاتا ہے: تطاعنوا بالوشيج: انہوں نے ایک دوسرے پر نیزوں سے حملہ کیا۔ الوَشِيجَة جمع وَشائج: درخت کے ریشہ کی بٹی ہوئی رسی جس کو دو لکڑیوں میں الجھا کر اس سے گیہوں وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجائی جاتی ہے۔ وشائج کا واحد: کان کی رگ۔ کہا جاتا ہے: هُمْ وَشِيجَةُ القومِ: وہ قوم میں اجنبی ہیں۔

ⓒ وَشِيجُ الاتصالِ: قریب قریب جڑا ہوا، مربوط۔ وَشِيجَة جمع وشائج: قریبی رشتہ۔ مُتَواشِج: مربوط، باہم مربوط۔

وشح: وَشَّحَ هُ: کو جڑاؤ پیٹی پہنانا۔ تَوَشَّحَ بسيفه: تلوار کو گردن میں لٹکانا۔ ـــ بثوبه: کپڑا پہننا یا بغل سے نکال کر کندھے پر ڈالنا۔ ـــ الجبلَ: پہاڑ پر چلنا۔ ـــ و اِتَّشَحَ: مرصع پٹکا پہننا۔ الوِشاحُ: تلوار، کمان۔ ذو الوِشاحِ: حضرت عمر بن الخطاب کی تلوار۔ ـــ والوُشاحُ جمع وُشُحٌ و أَوْشِحَة و وَشائحُ: جڑاؤ پیٹی۔ الوِشاحَة: تلوار۔ الوَشْحاءُ: سفید دھاریوں والی کالی بکری۔ المُوَشَّح اشعار کی ایک قسم جس میں ایک قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ اہل اندلس کی ایجاد ہے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اس سے مُوَشَّحَة جمع مُوَشَّحات ہے۔ المُوَشَّحَة من الطيرِ او الظباءِ: پرندہ یا ہرن جس کی گردن پر مالا کی طرح دو خطوط ہوں۔

ⓒ وَشَّحَ هُ: کو وشاح سے سجانا یا وشاح پہنانا۔ تَوَشَّحَ و اِتَّشَحَ ب: پٹی پہننا، پٹکا یا کمر بند پہننا، اپنا (ایک نیا نام) رکھنا، کے نام سے مشہور ہونا۔ مُتَّشِحٌ ب: (کوئی لباس) پہنے ہوئے۔

وشر: وَشَرَ يَشِرُ وَشْراً سنانَهُ: دانتوں کو تیز اور باریک کرنا۔ ـــ الخشبةَ بالمنشارِ: لکڑی کو آرے سے چیرنا۔ اِتَّشَرَ و اسْتَوْشَرَ: دانت تیز اور باریک کرنے کو کہنا۔ المَوْشُور (مفع) جمع مَواشِير (ہ): تین ضلعوں والا بلوری جسم۔ المنشار: آرا۔

ⓒ مَوْشُور جمع مَواشِير: منشور (prism)۔ مَوْشُوري: منشوری (prismatic (al))۔

وشز: وَشِزَ يَشِزُ وَشْزًا: جلدی کرنا۔ تَوَشَّزَ للشرِ: برائی کے لئے تیار ہونا۔ الوَشْزُ والوَشَزُ جمع أَوْشاز: جلدی، بلند جگہ، جس کی پناہ لی جائے؛ زندگی کی سختی۔ الوَشِيزَة: الوشائز کا واحد: بہت بھرا ہوا تکیہ۔

وشظ: وَشَظَ يَشِظُ وَشْظًا العظمَ: ہڈی کا ایک ٹکڑا توڑنا۔ ـــ الفأسَ: کلہاڑی کے دستہ میں پچر لگانا۔ ـــ القومُ البناءَ: تھوڑے لوگوں کا ہم سے آ کر ملنا۔ الوَشِيظُ جمع أَوْشاظ: تابع، حلیف، قوم میں اجنبی، خسیس، مختلف النسل لوگ۔ ـــ والوَشِيظَة جمع وَشائظ: لکڑی کا ٹکڑا جس سے لکڑی کا پیالہ جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هم وَشِيظَةٌ في قومهم: وہ قوم میں ادنی لوگ ہیں۔ هو وشيظة فيهم: وہ لوگوں میں ادنی ہے۔

وشع: ا۔ وَشَعَ يَشَعُ وَشْعًا الشيءَ: چیز کو خلط ملط کرنا، ملانا۔ ـــ القطنَ: روئی کو لپیٹنا۔ ـــ وَشْعًا وُشُوعًا وَشَعاتِ البقلةُ: سبزی کا پھول دار ہونا۔ ـــ هُ الشيءُ: کے اوپر ہونا۔ وَشَعَ القطنَ: روئی کو دھننے کے بعد لپیٹنا۔ ـــ الشيءُ في الشيءِ: ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے پر بیل بوٹے ڈالنا۔ ـــ الشيبُ رأسَهُ: سر پر بالوں کی سفیدی ظاہر ہونا۔ ـــ القومُ على كَرْمِهم او بُستانِهم: انگوروں کی بیلوں یا باغ کے ارد گرد باڑ لگانا۔ أَوْشَعَ البقلُ او الشجرُ: سبزی یا درخت کا پھول دار ہونا۔ تَوَشَّعَ بالكذبِ: جھوٹ سے مزین ہونا۔ ـــ الشيبُ رأسَهُ: سر پر بالوں کی سفیدی ظاہر ہونا۔ ـــ الشيءُ: پراگندہ ہونا۔ ـــ به: بہت ہونا۔ ـــ القومُ الضيوفَ: لوگوں کا مہمانوں کو تقسیم کر کے ہر ایک کا ان کی ایک جماعت کو اپنے گھر لیجانا۔ الوَشْعُ (مص) جمع وُشُوع: سبزیوں کے پھول، شگوفے، پہاڑ میں تھوڑی سبزی۔ الوُشْعُ: مکڑی کا جالا۔ الوَشُوعُ: پہاڑ کی متفرق نباتات، حلق میں ٹپکانے کی دوا۔ الوَشِيعُ: کپڑے کا منقش بارڈر، گھر کی چھت یا چھت کی لکڑیوں پر ڈالی ہوئی چٹائی، خشک ہو کر گرا ہوا درخت کا حصہ، باغ کے گرد خار دار باڑ، فوج کے افسر کا خیمہ جہاں سے وہ لشکر پر نگاہ رکھتا ہے۔ الوَشِيعَة جمع وَشِيع و وَشائع: رنگ برنگ کے سوت لپیٹنے کا گٹا، ہر پیچیدہ چیز، غبار کی دھاری، جلاہے کی نال۔ المُوَشَّعُ (مفع)۔ بُرْدٌ مُوَشَّعٌ: دھاری دار منقش چادر۔

۲۔ وَشَعَ يَشَعُ وَشْعًا و وُشُوعًا الجبلَ و فيه: پہاڑ پر چڑھنا۔ تَوَشَّعَ في الجبلِ: پہاڑ میں دائیں بائیں جانا۔ ـــ ت الغنمُ في الجبلِ: بکریوں کا چرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھنا۔

ⓒ وَشَعَ هُ: (روئی) کو لپیٹنا۔ وَشِيع: جنگلا، باڑ۔ وَشِيعَة جمع وَشائع: ریل (reel) (دھاگے کی نلکی)۔ وشيعة التحريض: برقی تار کا لچھا۔

وشغ: ا۔ وَشَغَ يَشِغُ وَشْغًا ببوله: پیشاب کرنا۔ وَشَّغَ الثوبَ بالدمِ: کپڑے کو خون میں لتھیڑ کر دھاری دار کرنا۔ أَوْشَغَ إِيشاغًا ببوله: پیشاب کرنا۔ تَوَشَّغَ بالسوءِ: برائی سے آلودہ ہونا۔

۲۔ أَوْشَغَ إِيشاغاً العطيةَ: بخشش کم دینا۔ الوَشْغُ والوَشِيغُ: تھوڑا، کم۔

وشق: ا۔ وَشَقَ يَشِقُ وَشْقًا: کو خراش ڈالنا۔ ـــ ہ بالرمحِ: کو نیزہ مارنا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو پھانکوں میں کاٹنا۔ ـ وَشَّقَ الشيءَ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ أَوْشَقَ الشيءُ في الشيءِ: چیز کا چیز سے چمٹنا۔ تَواشَقَ القومُ العدوَّ بأسيافهم: دشمن کو تلواروں سے کاٹنا۔ اِتَّشَقَ القومُ العدوَّ بأسيافهم: دشمن کو گوشت کی طرح تلواروں سے کاٹنا۔ ـــ فلانٌ اللحمَ: گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الوَشْقُ (مص): متفرق چارہ۔ الوَشَقُ (ح): ایک درندہ جس کی کھال سے عمدہ پوستین تیار ہوتے ہیں۔ الوَشِيقُ والوَشِيقَة جمع وَشائق: سفر پر ساتھ لیجانے کے لئے ٹکڑوں میں کاٹا ہوا گوشت۔ المِيشاقُ جمع مَواشِيق: کنجی کا دندانہ۔

۲۔ وَشَقَ يَشِقُ وَشْقًا الرجُلُ: جلدی کرنا۔ الوَاشِق (فا): جلدی گزر جانے والی چیز، جیسے عمر، زمانہ۔

۳۔ الوَاشِق: تھوڑا دودھ، چڑیا، گوریا، کنجشک، باز، شاہین، شکرا۔

وَشَق: بن بلاؤ، سیاہ گوش۔

وشك: وَشُكَ يَوْشُكُ وَشْكًا و وَشَاكَةً و وَشُكَ الأمرُ: جلدی ہونا صفت: وَشِيك۔ واشَكَ مُوَاشَكَةً: تیز چلنا۔ وَشَكَ: جلدی چلنا، قریب پہنچنا۔ اوشَكَ أن يموت: مرنے کے قریب ہونا (ماضی کے مقابلہ میں مضارع کا استعمال زیادہ ہے اور اس سے اسم الفاعل کا استعمال اس سے بھی کم ہے۔ اکثر و بیشتر اس کی خبر کے ساتھ أن آتا ہے۔ الوَشْك و الوُشْك و الوَشْكان و الوِشْكان و الوُشْكان: سرعت۔ کہا جاتا ہے: وَشْكان ما يكون ذلك: یہ جلد ہونے والا ہے یا کس قدر جلدی ہونے کو ہے۔ (یہ اسم فعل ہے)۔ الوِشَاك: سرعت۔ الوَشِيك (مذکر و مؤنث کے لئے) قریب، جلد تیز، کہا جاتا ہے: خرج وَشِيكًا: وہ تیزی سے نکلا۔

وَشُكَ يَوْشُكُ وَشْكًا و وشاكةً و وَشَكَ: جلدی ہونا۔ اَوْشَكَ أن: کو کرنے کو ہی ہونا، کو کرنے ہی لگنا۔ — أن/علی: کو کرنے کے قریب ہونا۔ — علی: کے قریب ہونا۔ يوشكُ أن: (وہ) قریب قریب یا قریباً۔ وشْك وُشك: رفتار، تیزی، پھرتی، جلدی، عجلت۔ علی وشك ان: کو کرنے کو ہی ہونا، کو کرنے ہی لگنا، کو کچھ کرنے کے قریب ہونا۔ علی وشك الخروج: باہر جانے کے قریب ہونا، باہر جانے لگنا۔ وَشكان: رفتار، تیزی، پھرتی، جلدی، عجلت۔ وَشِيك: قریب، نزدیک، سر پر کھڑا، آنے ہی والا، عن قریب ہونے والا، قریبی۔ وَشِيكُ الزوال: جلد تباہ ہونے والا۔ وشيك الحلّ: حل کے قریب، تقریباً حل شدہ (مسئلہ)۔

وشل: ا۔ وَشَلَ يَشِلُ وَشْلًا و وَشَلانًا الماءُ: پانی کا بہنا، ٹپکنا۔ — وُشُولًا: کمزور ہونا، مفلس ہونا۔ اَوْشَلَ الماءَ: پانی کو تھوڑا پانا۔ — حَظَّهُ: کا حصہ تھوڑا یا کم کرنا۔ الواشِل (فا) من الجبال: وہ پہاڑ جس سے پانی ٹپک رہا ہو۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ واشِلُ الرأی: فلاں شخص کمزور رائے والا ہے۔ هو واشِلُ الحظّ: وہ ناقص اور تھوڑے حصے والا ہے۔ الوَشَل جمع وِشال: تھوڑے آنسو، چٹان یا پہاڑ سے ٹپکنے والا پانی، بہت پانی یا آنسو۔ (ضد) کہا جاتا ہے: جاءوا وِشالًا: لوگ ایک دوسرے کے پیچھے آئے۔

عیونٌ وَشْلَةٌ: تھوڑے پانی والے چشمے۔ الوُشُول: دولت کی کمی، نقصان، کمی۔ ناقةٌ وَشُولٌ: بہت دودھ والی اونٹنی، تھوڑا دودھ دینے والی اونٹنی (ضد)۔

۲۔ وَشَلَ يَشِلُ وُشُولًا اليه: سے خاکساری ظاہر کرنا۔ الوَشَل: ہیبت، خوف۔

وَشَل جمع اَوْشَال: ٹپکتا پانی، ٹپکتے آنسو۔

وشم: وَشَمَ يَشِمُ وَشْمًا اليدَ: ہاتھ گودنا۔ وَشَّمَ الغصنَ: شاخ کا پتے نکالنا۔ — اليدَ: ہاتھ گودنا۔ اَوْشَمَ اِيْشَامًا المكانُ: جگہ کا سبزہ اُگنا۔ — الكرمُ: انگور کا رنگ پکڑنا۔ — الشيبُ فی رأسه: سر میں بڑھاپے کی سفیدی ظاہر ہونا۔ — البرقُ: بجلی کا چمکنا۔ — ت السماءُ: آسمان میں بجلی کا کوندنا۔ — ت الجاريةُ: لڑکی کے پستانوں کا ابھرنے لگنا۔ — فی عرض فلان: کو گالی دینا، پر عیب لگانا۔ — فی الامر: پر غور و تامل کرنا۔ کہا جاتا ہے: اَوْشَمَ يفعلُ كذا: وہ ایسا کرنے لگا۔ اِسْتَوْشَمَ اِسْتِيشَامًا: گودنے کے لئے کہنا یا اس کا ارادہ کرنا۔ الوَشْم (مص) جمع وُشُوم و وِشام: گودائی، گودنے کے نشانات، پہلے ظاہر ہونے والی نباتات۔ الوَشْمة: وشم کا اسم مرۃ: بارش کا قطرہ۔ کہا جاتا ہے: ما عصاهُ وَشْمَةً: اس نے اس کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کی۔ الوَشِيمَة: برائی، دشمنی۔ کہا جاتا ہے: بينهما وشيمةٌ: ان دو کے درمیان تو تکار، لڑائی اور دشمنی ہے۔

وَشَمَ يَشِمُ وَشْمًا و وَشَّمَ ہ: کو گود کر نقش بنانا (tatoo)۔ وَشْم جمع وِشام و وُشُوم: گودا ہوا نقش، گودنے کا نشان۔ وَشِيمة: دشمنی، بیر، لڑائی، جھگڑا، فساد، کینہ، بغض، عناد، بداندیشی۔

وشن: تَوَشَّنَ الماءُ: پانی کا کم ہونا۔ الوَشْن: بلند زمین، موٹا اونٹ۔ الأوْشَن: دسترخوان پر کھانے کا ساتھی۔

وشی: ا۔ وَشَى يَشِي وَشْيًا و شِيَةً الثوبَ: کپڑے کو رنگوں سے مزین کرنا اور اس پر نقش و نگار بنانا۔ — الكلام: کلام میں جھوٹ بولنا۔ — وَشْيًا و وِشَايَةً به الى الملك: بادشاہ سے کسی کی چغل خوری کرنا۔ وَشَّى ذ توباً: کو کپڑا پہنانا۔ — الثوبَ: کپڑے کو رنگوں سے مزین کرنا، کپڑے پر نقش و نگار بنانا۔ — الكلام: کلام میں جھوٹ بولنا۔ اَوْشَى اِيشاءً المكانُ: کسی جگہ نباتات اگنا۔ — ت النخلةُ: درخت خرما کا پہلا پھل لانا۔ — المعدنُ: کان میں سونے کا تھوڑا پایا جانا۔ — [illegible]: نقش و نگار والا ہونا۔ — الشيبُ فی رأسه: بڑھاپے کے سفید بالوں کا سر میں پھیل جانا۔ استوشی المعدنُ: کان میں سونے کا تھوڑی مقدار میں پایا جانا۔ الواشِی (فا) جمع وَاشُون و وُشَاة: چغل خور، جلاہا۔ الشِيَة (مص) جمع شِيات: ہر وہ رنگ جو کسی چیز کے زیادہ رنگوں کے مخالف ہو، علامت، نشان۔ الوَشْی (مص) جمع وِشاء: کپڑے کے نقش و نگار، نقش و نگار والے کپڑے۔ وَشْیُ السيف: تلوار کا جوہر۔ الوُشَاة: سونے پر ٹھپہ لگانے والے۔ الوَشّاء: بہت چغل خور، نقش و نگار والے کپڑے بیچنے والا۔ الأشْيَة: داغ دار۔ ثورٌ أشْيَةُ: داغ دار بیل۔ نست کیلئے۔ وشوئٌ کہا جاتا ہے۔

۲۔ وَشَى يَشِي وَشْيًا و وِشَايَةً بنو فلانٍ: کی اولاد کا زیادہ ہونا۔ اَوْشَى اِيشاءً الرجُلُ: کے مویشیوں کا زیادہ ہونا اور نسل بڑھانا۔ — الشیءَ: چیز کو نکالنا، کو جاننا۔ — الفرسَ: گھوڑے کو اکسانا۔ — الدواءُ المريضَ: دوا کا بیمار کو تندرست کرنا۔ — فی الدراهم: کچھ درہم لینا۔ اِيْتَشَى اِيتِشاءً العظمُ: شکستہ ہڈی کا ٹوٹ کر درست ہونا۔ اسْتَوْشَى الفرسَ: گھوڑے کو اکسانا۔ — الحديثَ: پر بحث کرنا، کو جمع کرنا۔ — الرجُلَ: سے مانگنا، کے ہاتھ میں جو کچھ ہو اسے نکالنا۔ الوَاشِی جمع وَاشُون و وُشَاة: بہت اولاد اور مویشیوں والا۔ الوَشَاء: اونٹوں کی کثرت۔

وَشَى يَشِي وَشْيًا ہ: (کپڑے) کی تزئین کرنا، کپڑے کو کئی رنگوں سے خوشنما بنانا، کپڑے پر سوزن کاری کرنا۔ وَشْيًا و وِشَايَةً ب إلى: پر کا بہتان باندھنا، کو سے بدنام کرنا، رسوا کرنا، سے کی بدگوئی کرنا۔ — ب: کے خلاف مخبری کرنا، کو علانیہ مجرم ٹھہرانا، کو برا بھلا کہنا، ملامت کرنا، کو دغا دینا، سے غداری کرنا۔ وَشّى ہ: (کپڑے) کی تزئین کرنا، کپڑے کو کئی رنگوں سے خوبصورت و خوشنما بنانا، کپڑے پر سوزن کاری کرنا۔ شِية جمع شِيات: بڑا سا بدرنگ دھبہ، دھبا، داغ، نشان، خرابی، عیب، نقص، علامت۔ وَشْی جمع وِشاء: کئی رنگوں سے کی گئی زیبائش، تزئین، سوزن کاری۔ سوزن کاری کیا ہوا یا چھاپا ہوا کپڑا۔ وَشّاء: سوزن کاری والا یا چھاپہ شدہ کپڑے بیچنے والا۔ وِشَايَة: رسوائی یا بدنامی، ہتک عزت، بہتان، تہمت، اتہام۔ تَوْشِيَة: سجاوٹ، تزئین، آرائش، زیبائش، سوزن کاری۔ واشٍ جمع واشون و وُشاة: غدار، دغاباز، بہتان لگانے والا،

بدگوئی کرنے والا، مخبر، برا بھلا کہنے والا۔

وص ا۔ وَصَّ یَوُصُّ وَصًّا العملَ: کام کو مضبوط بنانا۔ وَصَّصَ توصِیصًا ت المرأۃُ: عورت کا نقاب کو تنگ کرنا۔

۲۔ وَصْوَصَ عینہٗ: نظر جمانے کے لئے آنکھ کو تنگ کرنا، پردہ کے سوراخ سے دیکھنا۔ ـــ الجروُ: پلے کا آنکھیں کھولنا۔ ـ تِ الجاریۃ: برقع میں سے لڑکی کی صرف آنکھوں کا نظر آنا۔ الوَصْوَص و الوَصْوَاص جمع وَصَاوِص و وَصَاوِیص: پردہ میں آنکھ کے برابر سوراخ، چھوٹا برقع۔ الوَصاوِص: زمین کے بڑے بڑے پتھر۔

وَصْوَص: سوراخ یا درز سے جھانکنا، چوری چوری دیکھنا۔ وَصْوَص و وَصْواص جمع وَصاوِص: جھانکنے کا سوراخ۔ وَصْوَصَۃ جھانکنا، چوری چوری دیکھنا، دزدیدہ نظر۔

وصی وَصِیَ یوصا وصًا الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا۔

وصب: ا۔ وَصَبَ یَصِبُ وُصُوبًا: دائم رہنا، ثابت رہنا۔ ـ الدَّینُ قرض لازم ہونا۔ ـ علی الامر: کام کو کرتے رہنا، کو حسن کارانہ طریقہ سے کرنا۔ وَصِبَ یَوْصَبُ وَصَبًا و وَصَّبَ: بیمار ہونا، بیمار پڑنا صفت: وَصِب جمع وَصَابَی و وِصاب۔ وَاصَبَ علی الامر: کو کرتے رہنا۔ اَوْصَبَ: بیمار ہونا، بیمار پڑنا۔ ـــ اللّٰہُ فلانًا: اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیمار کرنا، بیماری میں مبتلا کرنا۔ اَوْصَبَ الرجُلُ: بیمار اولا د والا ہونا۔ ـ الشیءُ: دائم ہونا، ثابت ہونا۔ ـ علی الامر: کو کرتے رہنا۔ توَصَّبَ: بیمار ہونا، بیمار پڑنا، درد پانا۔ الوَاصِب (فا): دائم۔ الوَاصِبَۃ: الواصب کا مؤنث: بہت دور تک پھیلا ہوا بیابان جو ختم ہوتا نظر نہ آئے۔ الوَصَب جمع اَوْصاب: دائمی بیماری، درد، جسم کی لاغری، تھکن، سستی۔ المُوَصَّب: بہت دردوں والا۔

۲۔ الوَصَب جمع اَوْصاب: بنصر اور سبابہ کے درمیان کا حصہ۔

وَصَبَ یَصِبُ وُصُوبًا: جاری رہنا، رہنا۔ وَصِبَ یَوْصَبُ وَصَبًا و توَصَّبَ: (دائمی طور پر) بیمار ہونا۔ وَصَب جمع اَوْصَاب: بیماری، بے آرامی، سختی، تکلیف، مصیبت۔ وَاصِب: پائدار، مضبوط، مستقل۔

وصد: ا۔ وَصَدَ یَصِدُ وَصْدًا: ثابت رہنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑا بننا۔ ـ بالمکان: کسی جگہ قیام کرنا۔ وَصَّدَ الثوبَ: کپڑا بننا۔ اَوْصَدَ البابَ: دروازہ بند کرنا۔ ـ القِدرَ: ہانڈی ڈھانکنا۔ ـ علی فلان: کو تنگ کرنا۔ ـــ واسْتوصَدَ: پہاڑ میں مویشیوں کے لئے باڑہ بنانا۔ الوِصاد: بندش، ڈھکائی (دروازہ بند کرنا، ہانڈی ڈھکنا)۔ الوَصَّاد: جولاہا۔ الوَصِید جمع وُصُد: تنگ، بند کیا ہوا، قریب قریب جڑوں والی نباتات، غار چوکھٹ، گھر کا صحن، پہاڑ، دوبارہ ختنہ شدہ۔ ـــ والوَصِیدۃ جمع وَصَائِد: پہاڑ میں مویشیوں کا باڑہ۔ المُوَصَّد: پردہ۔

۲۔ وَصَّدَ الکلبَ بالصید: کتے کو شکار پر بھڑکانا۔ اَوْصَدَ الکلبَ بالصید: کتے کو شکار پر بھڑکانا۔

۳۔ وَصَّدَ فلانًا: کوڈرانا۔

وَصَدَ یَصِدُ وَصْدًا: ثابت و مضبوط ہونا، مضبوطی سے قائم رہنا۔ اَوْصَدَ ہ: (دروازہ) بند کرنا۔ اَوْصَدَ البابَ فی وجھہ: کا راستہ روکنا، کو آنے نہ دینا۔ وَصِید: چوکھٹ، دہلیز۔

وصر: الوِصر جمع اَوَاصِر: عہد ـــ والوصیرۃ والأوصر: عہد نامہ، چیک، دستاویز۔

وصع: وَصَعَ یَصَعُ وَصْعًا الشیءَ: کو پوشیدہ کرنا۔

وصف: وَصَفَ یَصِف وَصْفًا وصِفَۃً الشیءَ: کو بیان کرنا، کی تعریف کرنا۔ ـ الشیءَ: کو میٹھا کرنا۔ ـ الطبیبُ للمریض: طبیب کا مریض کے لئے دوا تجویز کرنا۔ ـــ وُصُوفا الفرسُ: گھوڑے کا عمدگی سے چلنا۔ وَصُفَ یَوصُفُ وَصَافۃً الغلامُ: لڑکے کا خدمت کرنے کے لائق ہو جانا۔ صفت: وَصِیف۔ اسم الایصاف و الوَصَافۃ۔ وَاصَفَ ہٗ: کوئی چیز اس کی صفت بتا کر فروخت کرنا۔ اَوْصَفَ اِیصافًا الغلامُ: لڑکے کا نوکری کے لائق ہونا۔ توَصَّفَ وَصِیفا أو وَصِیفۃً: خادم یا خادمہ خادم یا خادمہ بنانا۔ توَاصَفَ القومُ الشیءَ: کو ایک دوسرے سے بیان کرنا۔ اِتَّصَفَ الشیءُ: چیز کا قابل بیان ہونا۔ ـــ الرجُلُ: اچھی صفات سے ستودہ ہونا۔ ـــ بالصفات الحمیدۃ: ستودہ صفات والا ہونا۔ اِسْتَوْصَفَ فلانًا الشیءَ: کو کوئی چیز بیان کرنے کے لئے کہنا۔ ـ الطبیبَ: حکیم سے نسخہ تجویز کرانا۔ ـــ الغلامُ: لڑکے کا قابل خدمت ہونا۔ الصِفَۃ (مص): صفت، خوبی، وہ علامت جس سے موصوف پہچانا جائے۔ الصِفَاتِیَۃ: واحد صفاتی ایک فرقہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر ہے اور صرف ذات الوہیت کا اقرار کرتا ہے۔ الوَصْفِیَۃ: صفت کی حالت۔ الوَصَّاف: صفت سے واقف، طبیب۔ الوَصِیف جمع وُصَفَاء مونث وَصِیفَۃ جمع وَصَائِف: خدمت کے قابل لڑکا۔ المُسْتَوصَف: کلینک، چھوٹا ہسپتال۔

وَصَفَ یَصِفُ وَصْفًا ہ/ ہ: کی صفت بیان کرنا، کے متعلق کہنا کہ، کو لفظوں میں بتانا، بیان کرنا، کا حال بیان کرنا، کی تصویر یا نقشہ کھینچنا، کی لفظوں میں تصویر کھینچنا، کی خاصیت بیان کرنا، کا امتیازی وصف بیان کرنا، کی کردار نگاری کرنا۔ ـــ ہ: کی تعریف کرنا، کی ستائش کرنا، کی تعریف کے پل باندھنا۔ ـــ ہ ب: سے کوئی چیز منسوب کرنا، سے کی نسبت دینا۔ ـ ہ ب: کو کا حامل سمجھنا، کو کا مالک خیال کرنا، کی کے لئے تعریف کرنا۔ ـ ب ہ: کو کی نیک نامی میں کہنا۔ ـ ہ ل: دوا کا نسخہ کے لئے لکھنا، کوئی دوا کے لئے تجویز کرنا۔ لا یُوصَف: نا قابل بیان، مبہم، نرالا، عجیب، انوکھا۔ وَاصَفَ ہ: ایک دوسرے سے کسی چیز کا حال بیان کرنا، کو ایک دوسرے کو بتانا۔ اِتَّصَفَ: بین کیا جانا۔ ـــ ب: کا بطور خوبی یا خصوصیت حامل ہونا، مالک ہونا، (کی وجہ) سے ممتاز ہونا، معروف ہونا، مشہور ہونا، متصف ہونا، واضح ہونا۔ اِسْتَوْصَفَ ہ: (ڈاکٹر، حکیم) سے مشورہ کرنا، رجوع کرنا، پوچھنا۔ صِفَۃ جمع صِفَات: خوبی، کمال، قسم، خاص بات، کیفیت، ماہیت، خاصہ، وصف، صفت، خصوصیت، امتیازی نشان، انوکھا پن۔ صفت (گرامر)، طریقہ، اسلوب۔ بِصِفَۃ: بطور، کی حیثیت سے۔ بِصِفَتِہ وزیرًا: وزیر کی حیثیت سے، بطور وزیر۔ بِصِفَۃٍ خاصۃٍ: خاص کر، بالخصوص، خصوصاً۔ بِصِفَۃٍ غیرِ رسمیۃ: غیر سرکاری طور پر، غیر مصدقہ طور پر۔ وَصْف: بیان، توصیف، وصف، تصویر کشی، حلیہ کشی، نقل، امتیاز، خاصہ، نشان جمع اوصاف: خوبی، کمال، خاصہ، خصوصیت، وصف، امتیازی نشان، انوکھا پن، صفت (گرامر) اَوْصَاف (جمع) کسی شخص کا بیان۔ شیءٌ یفوق الوصف: نا قابل بیان چیز، بیان کی دسترس سے باہر (چیز)۔ أخَذَ اَوْصَافَہٗ: کا بیان قلمبند کرنا۔ وصفۃ: بیان، تصویر کشی، حلیہ کشی، نقل، طبی نسخہ۔ وَصْفِی: توصیفی، بیانی، تصویر کشی کا۔ وَصَّاف: بیان کرنے والا، تصویر کشی کرنے والا۔ وَصِیف جمع وُصَفَاء: نوکر، خادم، ملازم لڑکا۔ وَصِیفَۃ جمع وَصَائِف: نوکرانی، خادمہ، ملکہ یا شہزادی کی مصاحب خاتون، ملازمہ، مصاحبہ، بن بیاہی عورت جو ملکہ یا شہزادیوں کی مصاحب ہو۔ مُوَاصَفَۃ: بیان، توضیح، تشریح، ترجمانی، تفصیل، تصریح۔ جمع مواصفات: تفصیلات، تصریحات۔ مواصفۃ العلاج: علاج

کے لئے ہدایات، موصوف: بیان کردہ، نقل کردہ، لفظوں میں تصویر کھینچا ہوا، تصویر کشی کیا ہوا، نسخہ لکھا ہوا، تصور کردہ۔ ـــ ب: سے متصف، کا حامل، اسم جس کے بعد صفت ہو۔ مُتَّصِف ب: سے متصف، کا حامل، کا مالک۔ مُسْتَوصَف جمع مُسْتَوصَفات: کلینک (clinic)۔

وصل: وَصَلَ يَصِلُ وَصْلاً وصِلةً وَصْلةً الشيءَ بالشيءِ: چیز کو چیز سے جوڑنا، کو میں جمع کرنا۔ ـــ هُ بالف دينار: کو ہزار دینار دینا۔ ـــ وَصْلاً وصِلةً زيداً: زید سے نیکی کرنا، زید کو دینا۔ ـــ رَحِمَهُ: رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ ـــ فلاناً: سے تعلق رکھنا۔ وُصولاً و وُصلةً وصِلةً الى المكان: کسی جگہ پہنچنا۔ کہا جاتا ہے: وصلني الخبرُ و وصل اِليَّ الخبرُ: مجھے خبر پہنچی۔ ضربهُ ضربةً لا تُوصَل: اس نے اسے ناقابل علاج ضرب لگائی۔ وَصَّلَ الشيءَ بالشيءِ: چیز کو چیز سے جوڑنا، مربوط کرنا، باندھنا۔ ـــ و اَوْصَلَ فلاناً الى كذا: کو تک پہنچانا۔ واصَلَ وِصالاً و مُواصَلةً الشيءَ و في الشيءِ: کو جاری رکھنا، کو کرتا رہنا۔ ـــ هُ: سے تعلق رکھنا۔ تَوَصَّلَ الى كذا: تک پہنچنا۔ ـــ الى فلان: تک پہنچنے کے لئے حیلہ کرنا۔ تَوَصَّلَ اليه بِوُصْلَةٍ و سبب: تک رسائی حاصل کرنا، کو رشوت دینا۔ تَواصَلَ الرجلان: ایک دوسرے سے تعلق رکھنا۔ اِتَّصَلَ بالشيءِ: سے ملنا، جڑنا۔ ـــ اليه: تک پہنچنا۔ ـــ بي خبرُ فلان: میں اس سے باخبر ہوا۔ ـــ فلانٌ بالوزير: وزیر کی خدمت میں لگنا۔ ـــ الى بني فلان: سے منسوب ہونا۔ اِسْتَوْصَلَ: میل و اتحاد ڈھونڈنا۔ الصِلة (مص) جمع صلات: عطیہ، احسان، انعام۔ الوَصْل (مص): ليلةُ الوَصْل: قمری مہینہ کی آخری رات۔ حرف الوصل عند اهل القوافي: متحرک روی کے بعد آنے والے حرف یعنی واو یا یاء یا الف یا هاء۔ کہا جاتا ہے: هذا وصلُ هذا: یہ اس کے مثل ہے۔ الوُصْل والوِصْل جمع اَوْصال: عضو، جوڑ۔ الوُصْلَة (مص) جمع وُصَل: ملاپ، تعلق، دو چیزوں کو ملانے والی چیز، دور کا ملک، سفر کے ساتھی۔ الوَصُول: بہت میل رکھنے والا، بہت دینے والا۔ الوُصُول (مص): جمع وُصُولات (ت): وصولی کی رسید۔ الوُصُولي: ایسا طامع جو ہر قیمت پر اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے دوڑ دھوپ کرے، نو دولت، نیا نواب، نیا امیر۔ الوُصُولِيَّة: نو دولتی بنی نوالي۔ وَصيلُ الرجُلِ: ہمیشہ ساتھ رہنے والا، مثل۔ کہا جاتا ہے: هذا رجُلٌ وَصِيلُ هذا: یہ اس جیسا آدمی ہے۔ الوَصِيلَة جمع وَصائِل: جوڑنے والی چیز، دھاگے کا گولہ یا پیچک، وسیع و دور دراز ملک، عمارت، ارزانی، وَصِيل کا مؤنث، سفر کے ساتھی۔ ـــ جمع وُصُل و وَصائِل: دھاری دار کپڑا۔ اِتِّصالُ النَيِّرَين (فلك): سورج اور چاند کا اتصال یا ان کا بالمقابل ہونا۔ المَوْصِل: رسی وغیرہ کا جوڑ یا مقام اتصال۔ مَوْصِلُ البعير: اونٹ کے پڑے اور ران کا درمیانی حصہ، موت، عراق اور جزیرے کے درمیان ایک شہر کا نام۔ المَوْصِلان: موصل اور جزیرہ۔ المَوْصُول (مفع) (ح): ایک قسم کی بھڑ۔ المُسْتَوْصِل (فا): المُسْتَوصِلةُ من النساء: اپنے بالوں میں دوسرے کے بال لگانے والی عورت۔

(ت) وَصَل يَصِلُ وَصْلاً وصِلةً ه ب: کو سے جوڑنا، کو سے نتھی کرنا، منسلک کرنا، کو کے ساتھ لگانا۔ ـــ صِلةً: ربط قائم کرنا، تعلق، رابطہ، یا رشتہ قائم کرنا۔ ـــ بين و ـــ: کے اور کے درمیان رشتہ قائم کرنا، ربط یا تعلق کام میں لانا۔ ـــ ه ب: کو کچھ دینا، کو کچھ عطا کرنا، کو کچھ انعام دینا۔ ـــ وُصُولاً ه/الى: کسی دُ تک پہنچنا۔ ـــ ه/الى: کے ہاتھ آنا۔ ـــ ه/ه یا الى: کے پاس کچھ پہنچنا، کے پاس کچھ آنا۔ ـــ ه/الى: کوئی رقم پہنچنا، (حساب میں) میزان آنا، کا کے مرادف ہونا، معنی یہ ہونا کہ، مطلب یہ ہونا کہ یا گویا کہ۔ ـــ الى: کسی جگہ داخل ہونا۔ ـــ ب الى: کو تک لیجانا۔ وَصَلَني خطابٌ: مجھے ایک خط ملا ہے۔ وصله الخبر: اسے خبر پہنچی۔ يصلُ هذا الى حدِ كذا: یہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ جہاں۔ وصل الى الصفحة الحاسمة: فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہونا۔ وَصَّلَ ه ب: کو کے ساتھ جوڑنا، مربوط کرنا۔ ـــ ه/ه الى: کو تک پہنچانا۔ ـــ ه/ه ه: دیکھنا کہ کوئی شخص یا چیز تک پہنچتی ہے۔ ـــ ه/ه الى: کسی شخص یا چیز کو تک لیجانا۔ ـــ ه: کو لفٹ دینا۔ ـــ ه الى: کو کسی شخص یا جگہ منتقل کرنا، کو کسی شخص یا چیز تک پہنچانا، بھیجنا، ارسال کرنا، منتقل کرنا۔ وَصَّلَ: موصل کے طور پر کام کرنا (برق کا)۔ ـــ ه الى: کے ساتھ تک جانا، حفاظت کے لئے کسی کے ہمراہ کسی جگہ تک جانا، تک کی رفاقت کرنا۔ ـــ ه الى: کو برقی رو (سرکٹ) سے جوڑنا۔ ـــ ه ب: برقی آلہ کو دوسرے برقی آلہ سے جوڑنا۔ ـــ واصَلَ ه/ه في: کو جاری رکھنا، کو کرتے رہنا، پر ثابت قدم رہنا، پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا۔ ـــ ه: سے جڑا ہونا، مربوط ہونا، سے متعلق ہونا، علاقہ رکھنا۔ ـــ ه: کا قریبی دوست ہونا، کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنا، قائم رکھنا۔ ـــ ها: عورت سے مباشرت کرنا، مجامعت کرنا۔ واصَلَ الليلَ بالنهار: دن رات کام کرنا۔ واصَلَ جَهْدَهُ يا سَعْيَهُ في: کے لئے انتھک کوششیں کرنا۔ اَوْصَلَ (بمعنی وَصَّلَ نیز): طویل مسافت کا ٹیلیفون کرنا۔ اَوْصَلَ كلَّ ذي حقٍ بحقِهِ: ہر ایک کو اس کا جائز حق دینا، واجب الادا رقم، واجبات یا مواجب ادا کرنا۔ تَوَصَّلَ الى: تک رسائی حاصل کرنا، تک بعض ذرائع سے پہنچنا، کسی نہ کسی طرح تک پہنچنا، میں آنا، میں پہنچنا، کو حاصل کرنا یا پانا۔ تَواصَلَ: باہم متصل ہونا، ایک لگاتار سلسلہ بنانا۔ اِتَّصَلَ ب: سے جڑنا، مربوط ہونا، سے متحد ہونا، سے یکجا ہونا؛ سے رابطہ کرنا، سے رابطہ قائم کرنا، سے ربط رکھنا، سے متعلق ہونا، سے علاقہ رکھنا، سے مربوط ہونا، سے وابستہ ہونا، سے آملنا، میں شامل ہونا، کسی شخص یا چیز کے قریب ہونا، سے متصل، ملحق یا ملا ہوا ہونا، غیر منقطع ہونا، کی ملک ہونا، کا رکن یا فرد ہونا، کے علم میں آنا۔ واصَلَ: جاری ہونا، مسلسل ہونا، ایک لگاتار سلسلہ بنانا۔ ـــ الى: کا رشتہ دار ہونا، کی اصل، نسل، پست پیڑھی یا مذہب کا پتہ لگانا کے پاس آنا، تک پہنچنا، میں پہنچنا۔ قد اِتَّصَلَ بنا ان: ہمارے علم میں آیا ہے کہ...... اِتَّصَلَ بِهِ تلفونيا: سے بذریعہ ٹیلیفون رابطہ کرنا، سے رابطہ کرنا۔ اِتَّصَلَت به النارُ: آگ پکڑ لینا، آگ لگ جانا۔ صِلَة جمع صِلات: اتصال، تعلق، رشتہ، رابطہ، واسطہ، کڑی، حلقہ، بندھن، رشتہ داری، تحفہ، عطیہ۔ صِلَةُ الوصل: ملانے والا رابطہ۔ وَصْل: اتصال، تعلق، رابطہ، اتحاد، اتفاق، دھڑا، ایکا، انسلاک، رشتہ، خاکہ، خلاصہ، ملخص، تلخیص، عاشق و معشوق کا اجتماع جمع اَوْصال: تعلق، رابطہ، رشتہ، پیوند، اتصال جمع وُصُولات: وو چر، رسید۔ وصل الفائت: گزشتہ قسطوں کا خلاصہ۔ ليلةُ الوصل: قمری مہینہ کی آخری رات۔ وُصْل و وِصْل جمع اَوْصال: بازو یا ٹانگ، جمع جوڑ۔ حلّ اوصالَهُ یا قطّعَ اَوْصالَه: کے عضو عضو الگ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جوڑ جوڑ الگ کرنا، چیرنا، پھاڑنا۔ وُصْلَة جمع وُصُلات و وُصَل: اتصال، تعلق، رشتہ، ربط، جوڑ، وابستگی، ملانا، جوڑنا، جوڑ پابند، قبضہ، قلابہ، چول، جوڑنے والا آنکڑا، جوڑنے والا کنڈا، حلقہ، دو پرزوں کو ملانے والا کانٹا، زائد اوراق جو کتاب میں

داخل کردیے جائیں، جیسے نقشے ضمیمے وغیرہ، اندراج، شمولیت، ایک حد تک انطباق، خطِ رابطہ، نشانِ الحاق (—) وُصْلَةُ التَمَدُّد: توسیع کا جوڑ۔ وُصْلِيَة: ملانے والی سڑک، پہلو کی سڑک، معاون سڑک۔ وُصُول: آمد، حصول، یافت، کامرانی۔ رسید جمع وُصُولات: رسید، ووچر۔ وُصُولي: جو بہت چھوٹی حیثیت سے امیر یا صاحب اقتدار بن گیا ہو، نو دولتیا، چھچھورا، کم ظرف، نیا امیر۔ وَصِيل: جدا نہ ہوسکنے والا دوست، دلی دوست، ہم نوالہ ہم پیالہ، یار غار، بے تکلف دوست۔ المَوْصِل: شمالی عراق کے ایک شہر کا نام۔ تَوصِيل: متحد کرنا، جوڑنا، مربوط کرنا، سپلائی، دانہ، گھاس، چارہ، دودھ راتب، خوراک، ہری بھری کھیتی، مشین یا بندوق میں ڈالنے کی چیزیں، تعلق، اتصال، برقی اتصال، معاون تار، مشین میں سامان پہنچانے والا آلہ، برقی سرکٹ، جوڑ، ترسیل، خبر رسانی، اطلاع پہنچانا، ابلاغ، نشریہ، انتقال، ایصال بھیجنا، ارسال کرنا جمع تَوَاصِيل: رسید، ووچر۔ سَدَّاد التَوصِيل: پلگ (plug)۔ وِصَال: اجتماع، عاشق و معشوق کا اکٹھا ہونا (محبت میں)، راز و نیاز۔ مُوَاصَلَة: تعلق، جاری رکھنا جمع مواصلات: مواصلات، مواصلاتی لائنیں، اسباب المواصلات: مواصلات، ذرائع مواصلات۔ طُرُقُ المواصلات: آمدورفت کے راستے۔ وزارة المواصلات: وزارتِ مواصلات۔ ایصال جمع ایصالات: جوڑنا، ملانا، اتصال، متحد کرنا، اتحاد، تعلق، ترسیل، خبر رسانی، اطلاع، ٹرانسپورٹ، ارسال، پہنچانا، نقل و حمل، طویل مسافت کی ٹیلیفون کال کرنا، رسید، ووچر۔ بِتَواصُلٍ: لگاتار، متواتر، پے در پے۔ على اتصالٍ ب: سے رابطہ میں۔ اِسْتَمَرَّ فی اتصالِهِ به: سے رابطہ رکھنا۔ نُقَطُ الاتصال: رابطہ کی جگہیں۔ اتصالٌ تلیفونی: ٹیلیفونی رابطہ۔ مَوصول: بندھا ہوا، جکڑا ہوا۔ — ب: سے جڑا ہوا، چپکا ہوا، پر لگی ہوئی (آنکھیں)۔ اسم موصول أيّاماً مَوْصُولَةً: چند یا کئی لگاتار دن، کچھ عرصہ۔ مُوَصِّل جمع مُوَصِّلات: موصل (conductor)۔ مُتَواصِل: متواتر، پے در پے، مسلسل، لگاتار، غیر منقطع۔ مُتَّصِل: متواتر، پے در پے، مسلسل، لگاتار، ملحقہ، متصل، ملحق، ملا ہوا۔ مُتَّصِلُ الحلقات: باہم مربوط، قریب قریب جڑا ہوا، مسلسل۔

وصم: وَصَمَ يَصِمُ وَصْماً العودَ او العظمَ: لکڑی یا ہڈی میں شگاف ڈالنا۔ — الشيءَ: کو جلدی باندھنا، کو ناکارہ کرنا، بگاڑنا، خراب کرنا۔ وَصِمَ الرجُلُ: اعضاء شکنی والا ہونا۔ — فلاناً: کو شکستہ و کاہل کرنا، تکلیف دینا۔ —ت الحمیٰ فلاناً: بخار کا کسی کو تکلیف دینا۔ تَوَصَّمَ: تکلیف و درد والا ہونا۔ تَوَاصَمَ القومُ: ایک دوسرے کو عیب لگانا۔ الوَصْم (مص) جمع وُصُوم: لکڑی کی گانٹھ، عیب، عار۔ الوَصَم: بیماری۔ الوَصْمَة: جسم کی سستی، عیب، عار۔ الوَصِيم: خنصر و بنصر کے درمیان کی جگہ۔ المَوْصُوم (مفع): کہا جاتا ہے: رَجُلٌ مَوْصُومُ الحسب: عیب دار حسب والا آدمی۔

⊃ وَصَمَ ه: (نام، عزت) کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، داغ لگانا، آلودہ کرنا، دھبا لگانا، بدنام کرنا، پر کلنک کا ٹیکہ لگانا۔ — ه ب: پر کا الزام لگانا۔ — ه ب: کو بدنامی سے تکلیف میں ڈالنا۔ تَوَصَّمَ: عزت و آبرو کا آلودہ ہونا، داغدار ہونا۔ وَصْمه: بے عزتی، بے وقری، رسوائی، ذلت، کلنک کا ٹیکہ، داغ، دھبے کا نشان، نقص، کمی، عیب، کوتاہی، قصور، بیماری کی حالت، بیماری سے پہلے کی بے چینی، بے قراری۔ توصيم: بیماری کی حالت، بیماری سے پہلے کی بے چینی یا بے قراری۔

وصی: ۱۔ وَصَى يَصِي وَصْياً الشيءُ به: کے متصل ہونا۔ — الشيءَ بآخرَ: چیز کو دوسری چیز سے ملانا۔ — وَصْياً و وَصَاءَةً المكانُ: جگہ کا متصل نباتات والی ہونا۔ — النبتُ: نباتات کا بکثرت ہونا اور ایک دوسرے سے ملا ہوا ہونا۔ وَصَّى فلاناً بكذا: سے کسی کام کا عہد لینا، کو کسی کام کا اشارہ کرنا۔ — إلى فلانٍ: کسی کو اپنے مرنے پر اپنے مال اور بال بچوں پر وصی بنانا۔ — فلاناً بِوَلَدِه: کو اپنے بچوں پر مہربان بنانا۔ — اليه بالصلاة: کو نماز کا حکم دینا۔ کہا جاتا ہے: وَصَّاه بفلان ان يحسن اليه: کو کسی سے حسن سلوک کا حکم دینا۔ وَصَّيْتُ لَهُ بكذا: میں نے اس کو اپنی موت کے بعد مالک بنایا۔ واصَى البلدُ البلدَ: ایک شہر کا دوسرے شہر سے متصل ہونا۔ أَوْصَى إيصاءً فلاناً بكذا: کسی سے کسی کام کا عہد لینا، کو کا حکم دینا۔ — لَهُ بكذا: کے لئے کسی چیز کی وصیت کرنا۔ — اليه: کو وصی مقرر کرنا۔ تَوَاصَى تَوَاصِياً القومُ: ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ اِسْتَوْصَى اِسْتِيصَاءً بفلان: کسی کے بارے میں وصیت کو قبول کرنا۔ الوَصَاة جمع وَصًى و الوَصَايَة و الوِصَايَة: گٹھا باندھنے کی شاخ، وصیت۔ الوَصِيّ جمع أَوْصِيَاء: (مذکر و مؤنث کے لئے): وصیت کرنے والا، جس کو وصیت کی جائے۔ الوَصِيَّة جمع وَصِيّ: گٹھا باندھنے کی شاخ۔ — جمع وَصَايا الايصاء کا اسم: وصیت۔ کہا جاتا ہے: هذه وصيتُهُ: یہ اس کی وصیت ہے۔ وَصَايا اللّٰه: اللہ تعالیٰ کے احکام جو بندوں پر فرض ہوئے۔

۲۔ وَصَى يَصِي وَصْياً: ترقی کے بعد تنزلی کرنا۔

⊃ وَصَّى و أَوْصَى ه ب: کو کسی کے زیر نگرانی کرنا، کو کسی دیکھ بھال میں دینا، کو کچھ کرنے کی ہدایت کرنا، حکم دینا، مشورہ دینا، سے کی سفارش کرنا، کسی کے کوئی بات ذہن نشین کرنا، کو کے کرنے کا حکم دینا، کے سپرد کوئی کام کرنا، کو کی ہدایت کرنا۔ — ب ه: کو پر واجب یا لازمی کرنا۔ — ه ب: کو کے لئے حکم دینا۔ — ب: فرمان یا حکم جاری کرنا کہ۔ —: وصیت کرنا۔ — ان: چاہنا کہ، وصیت کے ذریعے تعین کرنا، یا حکم کرنا کہ ...... ل ب: کو کی وصیت کرنا، کے لئے کچھ ورثے میں چھوڑنا، کو وصیت کے ذریعے کوئی چیز منتقل کرنا۔ — إلى: کو وصی (وصیت کی تکمیل کرنے والا) مقرر کرنا۔ أَوْصَاهُ خيراً ب: اس نے اس کی دیکھ بھال کے لئے اس پر زور دیا۔ استوصى به خيراً: کو اپنا معاملہ بنانا، کے متعلق بہترین ارادے رکھنا۔ استوصى بالاجرِ خيراً: معتدل یا کم قیمت مقرر کرنا۔ وَصِيّ جمع أَوْصِيَاء: مختار عام، مجاز کارکن، جماعت ماہرین کا رکن، وصیت کی تکمیل کرنے والا، قانونی سرپرست، محافظ، نگران استاد، ناظم، مہتمم، متولی، شاہ کا قائم مقام، وصیت چھوڑنے والا، موکل، مالک، خدائی فرمان، زیر انتظام دینے والا، منتدب۔ وَصِيّ على العرش: شاہ کا قائم مقام، قائم مقام شہزادہ۔ وصية جمع وَصَايا: ہدایت، حکم، سفارش، صلاح مشورہ رائے ہدایت، فہمائش، نصیحت، تاکید، وصیت، عہد، عہد نامہ، وصیت کے مطابق میلان، ورثہ، ترکہ، میراث۔ الوصايا العشر: شریعت موسوی میں دس خدائی احکام یا احکام عشرہ۔ وَصَاة و وَصَايَة: ہدایت، حکم، تعلیم۔ وِصَايَة: سرپرستی، عجائب گھر کی مہتمی کا عہدہ، اتالیق کا منصب اور کام، حفاظت، نگرانی، اتالیقی، وصیت پر عملدرآمد، انتداب، متولی یا مہتمم کا منصب۔ مجلس الوصاية: نیابت شاہی کی کونسل۔ تَوصِيَة جمع توصيات و تَوَاصٍ: سفارش، ہدایت، تنبیہ، فہمائش، پند، وعظ، نصیحت، نیکی کی ترغیب، مشورہ، صلاح، تجویز، حکم، فرمان، تجارتی آرڈر، آڑھت۔ بالتوصية: آڑھت پر، فرمائش کے مطابق۔ خطابُ توصية: سفارشی چٹھی۔ شِرْكَةٌ

توصية: محدود شراکت بیتساء = توصية: نیز
وصیت کی تکمیل کرنے والا کا تقرر مُوَصٍّ و مُوصٍ:
مؤکل، گاہک، پرنسپل، متندب، وصیت کرنے والا۔
شريك مرص: خاموش شراکت دار مُوصىً به:
فروخت شدہ، وصیت کردہ، ورثہ میں چھوڑا ہوا، میراث
کے طور پر دیا ہوا، ورثہ، ترکہ، میراث، حکم جاری شدہ،
حکم دیا ہوا، سفارش کیا ہوا مُوصى عليه: رجسٹرڈ
(خط، لفافہ وغیرہ) المُوصى له: جس کے حق میں
وصیت کی جائے، ترکہ پانے والا، وارث۔
المُوصى إليه: وصیت کی تکمیل کرنے والا۔

وضا: وَضُؤَ يَوْضُؤُ وَضَاءَةً: سے خوب روئی حسن و
پاکیزگی میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا وَضُؤَ يَوْضُؤُ
وُضُوءًا و وَضَاءَةً الشيءَ: چیز کا پاکیزہ اور
خوبصورت ہونا وَضَّأَ تَوْضِئَةً بالماء: کو پانی
سے پاک کرنا اور خوب اچھی طرح دھونا وَاضَأَهُ:
پرخوب روئی اور پاکیزگی میں غالب آنا۔ کہا جاتا ہے:
وَاضَأَهُ فَوَضَأَهُ: اس نے اس کا خوبروئی اور
پاکیزگی میں مقابلہ کیا اور غالب آ گیا تَوَضَّأَ
بالماء للصلاة: نماز کے لئے وضو کرنا۔ الغلامُ
والجاريةُ: لڑکے اور لڑکی کا بالغ ہونا الوَضُوءُ:
وضو کرنے کا پانی الوَضِيءُ جمع وِضَاء و
أوْضِيَاءُ و الوُضَّاءُ جمع وُضَّاءَ و الوُضَّاء جمع
وُضَّاؤُون و وَضَاضِي: پاکیزہ، خوبصورت۔
الأوْضَاءُ: زیادہ خوبصورت، زیادہ پاکیزہ المِيضَاةُ
والمِيضَأةُ: وہ جگہ جہاں وضو کیا جائے، لوٹا المُتَوَضَّأ:
وضو کرنے کی جگہ، پاخانہ۔
تَوَضَّأ: وضو کرنا وُضَّاء: روشن، تاباں، چمکدار، چمکتا
ہوا، چمک دمک والا، تیز طبع، ذہین، نامی گرامی، تابندہ،
فروزاں، شعاع افشاں، نور افشاں۔ منور، شوخ رنگ
کا وَضَاءَةٌ: پاکیزگی، صفائی ستھرائی، نفاست،
نفاست پسندی وُضُوء: پاکیزگی، نفاست، وضوء۔
وَضُوء: وضو کا پانی وَضِيء جمع وِضَاء: پاکیزہ
صاف ستھرا تَوَضُّؤ: وضو مِيضَاة و مِيضَاءَة:
(وضو کیلئے) چشمہ یا چلمچی۔

وضب: تَوْضِيب: انتظام، تیاری، (کان کنی کی
صنعت) محفوظ رکھنے کے لئے ٹھیک کرنا۔

وضح: وَضَحَ يَضِحُ ضِحَةً و وُضُوحًا و
تَوَضَّحَ و إتَّضَحَ الامرُ او الكلامُ: حکم یا بات
واضح ہونا، ظاہر ہونا صفت اَضِحٌ و وَضَّاحٌ۔
وَضِحَ يَوْضَحُ وَضَحًا: برص کے داغوں والا ہونا۔
وَضَّحَ الأمرَ: حکم واضح کرنا أَوْضَحَ الأمرُ:
ظاہر و واضح ہونا۔ الأمرَ: کو واضح کرنا۔ ت
الشجّةُ في الرأس: زخم کا سر کی ہڈی کو کھول دینا۔
في رأسه: کی کھوپڑی زخمی کرنا۔ کہا جاتا ہے من
اين أوْضَحتَ: تم کہاں سے آئے ہو؟ اِسْتَوْضَحَ
اِستيضاحًا عن الأمر: پر بحث کرنا۔ ہُ الأمرَ او
الكلامَ: سے حکم یا بات کی وضاحت کرانا، سے کی
وضاحت چاہنا۔ الشيءَ و عن الشيءِ: کو
آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا۔ الشمسَ: سورج کو
نگاہ تنگ کر کے دیکھنا المُواضِح (فا): ظاہر، نمایاں۔
۔ من الابل: سفید اونٹ و اضِحُ الحسب:
بے داغ حسب والا المُواضِحَة جمع وَاضِحات
و أوَاضِح: واضح کا مونث۔ ہنسی میں ظاہر ہونے والے
دانت المُوَضَّح (مص): کھر اور ہم (کہا کا جاتا
ہے) دراهمُ وَضَحٌ: کھرے درہم (اس لفظ کی نہ تو
مونث آتی ہے نہ تثنیہ اور نہ ہی جمع) جمع أوْضَاح:
روشنی، صبح کی سفیدی۔ (کہا کا جاتا ہے جَاءَ في
وضح الصبح: وہ صبح کی سفیدی یا روشنی کے وقت
آیا۔) چاندنی، گھوڑے کی پیشانی یا ٹانگوں کی سفیدی،
بڑھاپے کی سفیدی، برص کی سفیدی، دودھ، چاندی کا
زیور، پازیب، چھوٹی چھوٹی گھاس وضحُ الطريق:
شاہراہ۔ القدم: پاؤں کے تلوے کی سفیدی۔
أوضاحٌ من الناس: مختلف قبیلوں کی جماعتیں (اس
کا واحد نہیں آتا) الوُضْحَة (ح): گدھی الوَضَّاح:
سفید فام، خوبرو، بہت مسکرانے والا، دن المنسبُ
الوَضَّاح: پاک نسب بكرُ الوَضَّاح: صبح کی
نماز المُوضِحَة جمع وَضَائح: مویشی۔
المُتَوَضِّح (فا) الأمر: ظاہر ہونے والا، شاہراہ پر چلنے
والا من الابلِ: ہلکے سفید رنگ کا اونٹ۔
وَضَحَ يَضِحُ وُضُوحًا: صاف، واضح، ظاہر، آشکار،
بدیہی یا بیّن ہونا یا ہو جانا، نظر آنا، لگنا، معلوم ہونا، دکھائی
دینا وَضَّحَ و أوْضَحَ ہ: کو واضح کرنا، ظاہر کرنا، کی
تشریح کرنا، توجیہ کرنا، کا مطلب بتانا، کو تفصیل سے
سمجھانا، کی توضیح کرنا، کو مثالیں دے کر سمجھانا، کو پیش
کرنا، کو واضح کرنا، آشکار کرنا، کو دکھانا، کو بتانا، کا اشارہ
کرنا، پر دلالت کرنا، کی صراحت کرنا، کو معین کرنا، سے
عبارت ہونا، کا اظہار کرنا تَوَضَّحَ: بمعنى وَضَحَ
نیز تَوَضَّحَ: ظاہر کیا جانا، صاف ہونا، واضح ہونا،
دکھایا جانا، بتایا جانا، صاف واضح اور ظاہر ہونا۔
اِتَّضَحَ: بمعنى وَضَحَ و تَوَضَّحَ نیز اِتَّضَحَ
من: سے صاف نتیجہ نکلنا، سے وضاحت ہونا اِسْتَوْضَحَ
ہ: سے وضاحت طلب کرنا۔ ہ: کی وضاحت
طلب کرنا۔ ہ/عن: کا جائزہ لینا، کی تفتیش کرنا، کا
گہرا مطالعہ کرنا، پر خوب غور کرنا، کی تحقیقات کرنا، کی
علمی تحقیقات کرنا۔ ہ: کو واضح طور پر سمجھنا چاہنا۔
وَضَح جمع أوْضَاح: آب و تاب، روشنی، درخشانی،
تابندگی، تنویر، چمک دمک۔ في وضح النهار: دن
دہاڑے وَضَّاح: چمکدار، صاف، درخشاں، تابندہ،
روشن، چمکیلا، تاباں، تابندہ، روشنی دینے والا۔
وُضُوح: صفائی، وضاحت، سادگی، صراحت، نمو داری،
ظہور، اظہار بِوُضُوحٍ: صریحاً، واضح طور پر،
صراحت سے، وضاحت سے، بیّن طور پر۔ اَوْضَح:
واضح تر ایضاحی: واضح کرنے والا، تشریحی،
توضیحی اِستیضاح جمع استیضاحات: وضاحت
کرنے کی درخواست، پوچھنا، دریافت کرنا، تحقیقات،
رسمی سوال، مقننہ میں سوال (interpellation)
واضح: صاف، واضح، روشن، درخشندہ، بیّن، صریح،
ظاہر، آشکار، مرئی، آشکارا، عیاں، نمایاں، کھلا، نمائشی،
نمائش کے قابل، دکھانے کا واضح بذاته:
صاف، ظاہر، بدیہی، خود تشریحی من الواضح أن:
یہ واضح ہے کہ الامر واضحٌ وضوحَ الشمس في
رابعة: معاملہ دن کی روشنی کی طرح واضح ہے۔
مُتَّضِح: صاف، واضح، ظاہر، نمایاں، صریح، بیّن،
یقینی، حتمی، عیاں، آشکارا، کھلا ہوا۔

وضخ: وَضَخَ يَضِخُ وَضْخًا الدلوَ: پانی سے آدھا
ڈول بھرنا وَاضَخَ وِضَاخًا و مُوَاضَخَةً ہ: سے
پانی کھینچنے یا دوڑنے یا چلنے میں مقابلہ کرنا أوْضَخَ
الدلوَ: ڈول کو پانی سے آدھا بھرنا، ڈول سے تھوڑا پانی
کھینچنا۔ ت البئرُ: کنویں کے پانی کا کم ہونا۔
تَوَاضَخَ القومُ: پانی بھرنے، دوڑنے یا چلنے میں
مقابلہ کرنا الوَضُوخ: آدھے ڈول تک بھرا ہوا
پانی، پانی کھینچنے کی چیز۔

وضر: وَضِرَ يَوْضَرُ وَضَرًا: میلا ہونا، چکنا ہونا۔ صفت
مذکر وَضِر صفت مونث: وَضِرَة و وَضْرَى۔
کہا جاتا ہے فلانٌ وَضِرُ الاخلاق و في اخلاقه
وَضَرٌ: فلاں گندے اخلاق والا ہے وَضَّرَهُ: کو میلا
کچیلا کرنا۔ کہا جاتا ہے كان نقيَّ العِرض فَوَضَّرَهُ
بالدناءة: وہ پاکیزہ شہرت والا تھا پھر اس نے اسے
کمینگی سے خراب کر دیا الوَضَر (مص) جمع
أوْضَار: چکناہٹ کا میلا پن، پیالہ کا دھوون، پیالے
میں کھانے کا اثر الوَضْرَى: سرین۔

وضع: وَضُعَ يَوْضُعُ وَضَاعَةً: کو کمینہ بتانا، ذلیل کرنا۔
۔ عُنُقَه: کی گردن پر مارنا۔ الحديثَ: بات

گھڑنا۔ ــــ الكتابَ: کتاب تصنیف کرنا۔ ـــ السلاحَ في العدوّ: دشمن سے لڑنا۔ ــ يَدَهُ عن فلان: سے رکنا۔ ــ الجناية عن فلان: سے سنگین الزام خارج کرنا۔ ـــ عصاهُ: چلنے سے رکنا، قیام کرنا۔ ــ ت المرأة خمارَها: عورت کا بے اوڑھنی ہونا صفت: واضع: (یعنی بے اوڑھنی عورت)۔ ــ الشيءَ بين يديه: چیز کو سامنے چھوڑ دینا۔ ــ يَدَهُ في الطعام: کھانا کھانا۔ ــ الجزية او الحربَ: جزیہ یا جنگ ساقط کرنا۔ ـــ وَضْعًا و مَوْضَعًا و مَوْضِعًا و مَوْضُوعًا الشيءَ: کو نیچے رکھنا، رکھنا، کو کسی جگہ قائم کرنا، استوار کرنا۔ ــ الشيءَ من يدِهِ: کو ہاتھ سے ڈال دینا۔ ــ من فلان: کا مرتبہ گھٹانا۔ ــ عن غريمه: کو قرض سے کچھ چھوڑنا۔ ــ وَضْعًا و مَوْضُوعًا البعيرُ: اونٹ کا سر جھکا کر تیز چلنا۔ ــ وَضْعًا وَضعةً و ضِعةً و وُضُوعًا نفسَهُ: خود کو ذلیل کرنا۔ ــ وَضْعًا و وُضْعًا و تُضْعًا تِ المرأةُ حملها: جننا۔ صفت: واضِع۔ وَضِعَ يَوْضَعُ و وُضِعَ ضَعَةً و ضِعَةً و وَضِيعَةً في تجارته: اپنی تجارت میں نقصان اٹھانا۔ صفت مَوْضُوعٌ فيها۔ وَضُعَ يَضُعُ ضَعَةً و ضِعَةً و وَضَاعَةً: گھٹیا نسب والا ہونا، منہ بولا بیٹا ہونا، کمینہ و ذلیل ہونا، خسیس ہونا۔ وَضَّعَ الشيءَ: کو جوڑنا۔ ــ الجبّةَ: جبہ کو روئی بھر کر سینا۔ ــ تِ النعامةُ بَيْضَها: شتر مرغ کا انڈوں کو تہہ بتہہ کرنا۔ ــ الرجلَ: کو ذلیل کرنا۔ واضَعَ وِضاعًا و مُواضَعَةً هُ: سے شرط لگانا۔ ــ هُ في الامر: کی کسی امر میں موافقت کرنا۔ ــ هُ البيعَ: بیع چھوڑنا۔ ــ هُ الرهانَ: کی شرط باطل کرنا۔ کہا جاتا ہے: هَلُمَّ أُواضِعْكَ الرأيَ: آؤ! ہم ایک دوسرے کو اپنی اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ أَوْضَعَ البعيرُ: اونٹ کا تیز چلنا۔ ــ البعيرَ: اونٹ کو تیز چلانا۔ ــ في تجارته: اپنی تجارت میں نقصان اٹھانا۔ تَواضَعَ: ذلیل و عاجز ہونا، انکساری کرنا۔ ــ ت الارضُ: زمین کا پست ہونا۔ ـــ القومُ على كذا: پر لوگوں کا متفق ہونا۔ ــ مابيننا: دور ہونا۔ اِتَّضَعَ: ذلیل و عاجز ہونا، لئیم اور گھٹیا نسب والا ہونا۔ ــ البعيرَ راكبُهُ: سوار کا اونٹ کی گردن کو سوار ہونے کے لئے جھکانا۔ اِسْتَوْضَعَ اِسْتِيضَاعًا منه: کو گھٹانے کے لئے کہنا۔ ــ هُ في دَيْنِهِ: سے قرض میں نرمی چاہنا۔ الواضِع (فا): امرأة واضِع: بے اوڑھنی کے عورت۔ ناقةٌ واضِعٌ: تلخ و ترش پودوں میں رہ کر چرنے والی اونٹنی۔ الوَضْع (مص) جمع اوضاع: جگہ۔ الوَضْعَة و الوِضْعَة: جگہ، مرکز۔ الوَضِيع: خسیس، کمینہ، امانت۔ کہا جاتا ہے: وضعتُ عنده وضيعًا: میں نے اس کے پاس امانت رکھی۔ الوَضِيعَة جمع وَضَائِع: قیمت کی کمی، امانت، ترش نباتات، خراج یا عشر جو بادشاہ وصول کرتا ہے، منہ بولا بیٹا، فوج کا دستہ جو کسی صوبہ میں رکھا جائے، کتاب جس میں حکمت کی باتیں لکھی جائیں، کٹے ہوئے گیہوں اور گھی سے تیار کردہ کھانا۔ الوَضَائِع: مسافروں کا سامان۔ التَّوْضِيع (مص): کہا جاتا ہے، في كلامِهِ توضيع: اس کے کلام میں زنانہ پن ہے۔ المَوْضَع و المَوْضِع (مصدر) جمع مواضِع: رکھنے کی جگہ۔ المَوْضِعَة: مَوْضِع کا ہم معنی۔ کہا جاتا ہے: لَهُ في قلبي مَوْضِعَةٌ و مَوْقِعَةٌ: میرے دل میں اس کی محبت ہے۔ المُوَضَّع (مفع): ٹوٹا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا۔ المَوْضُوع جمع مَوَاضِيع و مَوْضُوعات (مص): موضوع العلم: وہ چیز جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے جیسے جسم انسانی علم طب کے لئے۔ موضوعُ الكلام: وہ عنوان کلام جس پر گفتگو چل رہی ہو۔ الاحاديث الموضوعة: گھڑی ہوئی باتیں۔ الموضوعة: مفروضہ (جیومیٹری)

وَضَعَ يَضَعُ وَضْعًا ه: کو رکھنا، کو نیچے رکھنا، نصب کرنا، کھڑا کرنا۔ ــ ه في: کو میں لگانا، کو سے منسلک کرنا، کو پر چسپاں کرنا، کو سے چپکانا، کو میں رکھنا۔ ــ ه على: کو پر عائد کرنا۔ ــ ه عن: کو سے لینا۔ ـــ عن: کو بوجھ سے چھٹکارا دلانا۔ ــ عن: گھوڑے سے زین اتارنا۔ ــ ه: بچہ پیدا کرنا، بچہ جننا۔ ــ ه: کوئی چیز ایجاد کرنا، بنانا، کی بنیاد رکھنا، کو قائم کرنا، شروع کرنا۔ ــ ه: کو لکھنا، (کتاب) تصنیف کرنا، کچھ تخلیق کرنا، کوئی نیا لفظ وغیرہ گھڑنا، یا وضع کرنا۔ ــ ه/من: کو ذلیل کرنا، کی تحقیر کرنا، کو بدنام کرنا، بے وقار کرنا، پر عیب لگانا، کے نام کو بٹا لگانا، کی ہتک عزت کرنا۔ ــ وضوعًا و ضِعَةً نفسَهُ: خود کو ذلیل کرنا۔ وَضُعَ يَوْضُعُ وَضَاعَةً: کمینہ ہونا، نیچ ہونا۔ وَضَعَ اساسًا: بنیاد رکھنا۔ وضع ثِقَتَهُ في: پر اعتماد کرنا۔ وَضَعَهُ جانبًا او على جانب: کو ایک طرف رکھنا۔ وَضَعَهُ في جيبِهِ: کو اپنی جیب میں رکھنا۔ وَضَعَ حدًّا لِ: کو ختم کرنا۔ وضع ختمًا على: پر مہر لگانا۔ وضع السلاحَ: ہتھیار ڈالنا۔ وُضِعَتِ السلسلةُ في عنقِهِ: گردن کے پاس چکی کا پاٹ رکھنا، سخت معذور ہونا۔ وضع مشروعًا: منصوبہ بنانا۔ وضع من قدره: کی قدر و قیمت گھٹانا۔ وضع تقريرًا: رپورٹ لکھنا یا بنانا۔ وضع اقتراحاتٍ: تجاویز بنانا، مرتب کرنا۔ وضعه في مقدمة اهتمامه: کو ترجیح دینا۔ وضع لفظًا لِ: کے لئے لفظ گھڑنا یا وضع کرنا۔ وضع للفظ معنى خاصًا به: کو کوئی خاص معنی دینا۔ وضعه نُصبَ عَيْنِه: کو واضح کرنا، سے کا اظہار کرنا۔ وضع نظّارَتَهُ على عينيه: عینک لگانا۔ وضع نُظُمًا: قواعد قائم کرنا۔ وَضَعَه على حِدَةٍ: کو الگ کرنا، چن لینا۔ وضعه موضعَهُ: کو کی جگہ رکھنا۔ وضعه موضعَ التنفيذ: کو نافذ کرنا، عمل میں لانا، عملی جامہ پہنانا، کو موثر یا کارگر بنانا۔ وضعه موضعَ الشك: پر شک کرنا، کے متعلق شک ظاہر کرنا۔ وضعه موضعَ العمل: کو عمل میں لانا۔ وضع الفكرة موضعَ الفعلِ: خیال کو عمل کا جامہ پہنانا۔ وضع نفسه موضع فلان: اپنے کو کسی کی جگہ رکھنا۔ وضعه في غير موضعِه: کو غلط جگہ رکھنا، کو کسی جگہ رکھ کر بھول جانا۔ وضع يَدَهُ على: کو قبضہ میں لینا۔ وضع يده على الف اسير: ایک ہزار کو قیدی بنانا۔ وضع يده على ضميره: اپنے دل پر ہاتھ رکھنا۔ وضعه من يده: کو ایک طرف رکھنا، کو بے پرواہی سے ایک طرف پھینک دینا۔ وضعه تحت يده: کو کسی کے تسلط میں دینا۔ أَوْضَعَ: جلدی کرنا۔ ـــ في: میں سرگرم حصہ لینا، میں عملی حصہ لینا۔ أُوضِعَ في: میں نقصان اٹھانا۔ تَواضَعَ: اپنے آپ کو ذلیل کرنا، عاجزی اور شرافت سے پیش آنا۔ ــ على: پر اتفاق کرنا۔ اِتَّضَعَ: خود کو ذلیل کرنا۔ ضَعَة و ضِعَة: عاجزی، انکساری، گراوٹ، سفلہ پن، تنگی، قلت کی، بے کسی، بے نوائی محتاجی، گھٹیا پن۔ وضع جمع اوضاع: ہتھیار ڈالنا، نیچے رکھنا، رکھنا، لگانا، جڑنا، مقرر کرنا، لگانا، رکھنا، لکھنا، ریکارڈ کرنا، دستاویز وغیرہ مرتب کرنا، (مطبوعہ تصنیف کی) ترتیب، (کتاب) لکھنا، تصنیف کرنا، تخلیق، ایجاد (لفظ) وضع کرنا، من گھڑت بات۔ (معاہدہ) طے کرنا، زائدگی، جننا، ولادت، قاعدہ، قانون، خاکہ، مسودہ، رویہ، وضع، وطیرہ، طریقہ، چال، انداز، چلنے کا ڈھب، بناوٹی انداز، انداز نشست وغیرہ، پوز (کیمرہ کے سامنے)، درجہ، مقام، حالت، موقف، پوزیشن، محل وقوع، موضع، صورت حال، بنیاد، استقرار، تذلیل، شرمساری، جمع اوضاع: حالات، حال، حالت، صورت حال، قوانین، قواعد، اصول، انداز، اسلوب، سماجی رسوم، معاشرتی

روایات، دستور، رواج، ریتیں، رسمیں، رواجی قواعد۔ وَضْعًا و قولاً: قولاً وعملاً۔ الوضع الحالی: موجودہ صورت حال۔ الآم الــوضــع: دروزہ۔ وَضْعَة و وِضْعَة صورت حال، پوزیشن موقف مقام۔ وَضْعِی: صورت حال یا موقف کے متعلق، قطعی، مثبت، ایجابی، ٹھوس، انسان کا بنایا ہوا، تقلید پر مبنی، وجوبی، رسمی، تقلیدی۔ قانون وضعی: ٹھوس قانون۔ القیمُ الوضعیة: اعشاریے۔ وضعیة: صورت حال، فلسفہ وجوبیت جس میں صرف ان چیزوں کو مانا جاتا ہے جن کا وجود مشاہدہ میں آسکے اور اس کا عینی ثبوت ہو۔ وضاعة: عاجزی انکسار، گراوٹ، پستی، سفلہ پن۔ وضیع: فروتن، خاکسار، منکسر المزاج، کمینہ، سفلہ، عامیانہ، بازاری، ادنی طبقہ کا، گھٹیا، کم رتبہ۔ الطبقة الوضعیة: سب سے نچلا طبقہ۔ الوضیع و الرفیع: ادنی و اعلی۔ وضیعة: امانت، جو چیز رکھی گئی ہو، جو چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو، ودیعت، زیر تولیت جائداد، حوالگی، بینک میں ایک مدت کے لئے رکھی ہوئی رقم، نقصان کے ساتھ دوبارہ فروخت، قیمت میں کمی، منہائی، کٹوتی۔ مَوضِع جمع مَواضِع: جگہ، موقع، کتاب کا کوئی حصہ یا عبارت، پوزیشن، صورت حال، رتبہ۔ فی موضعه: صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر، بروقت، برمحل، برموقعہ، مناسب وقت پر، بہت موقع کا۔ فی غیر موضوعه: غلط جگہ پر۔ فی موضع الحال: موجودہ حالت میں۔ کان موضع حکاوۃٍ: وہ استقبالیہ میں جیتی جاگتی مثال تھا۔ موضع الاعجاب: تعریف کی چیز۔ موضع الحنان: ہمدردی کی چیز۔ مَوْضِعی: مقامی۔ واضع الید: قابض۔ موضوع جمع موضوعات و مواضیع: موضوع، مرکزی خیال، سوال، مسئلہ، مضمون، بدیہیات یا اولیات میں سے، بدیہی، اصول موضوعہ۔ فهرس الموضوعات: اشاریہ، مشمولات کی فہرست۔ ادرك الموضوعَ: اس نے نقطہ پالیا۔ غیر ذی موضوع: موضوع سے غیر متعلق، بے محل، بے موقع، بے وقت۔ موضوعی: معروضی، واقعیت پسندانہ، موضوع سے متعلق۔ مَوْضُوعِیَة: واقعیت پسندی، یہ نظریہ کہ خارجی اشیاء کا علم مقدم اور حقیقی ہے۔ مواضعات: مماثل یا مشابہ (الفاظ) گھڑنے یا وضع کرنے کے عمل۔ مُتَواضِع: منکسر المزاج، شریف، سیدھا سادہ، سادہ، چھوٹا، غیر اہم۔

وضف: وَضَفَ یَضِفُ وَضْفًا و أَوْضَفَ البعیرُ: اونٹ کا تیز چلنا۔

وضم: وَضَمَ یَضِمُ وَضْماً اللحمَ: گوشت کو تختہ پر رکھنا۔ ــ وُضُوماً القومُ: جمع ہونا، قریب قریب ہونا۔ ــ بنو فلان علی بنی فلان: فلاں کی اولاد کا فلاں کی اولاد کے پاس آنا۔ اَوْضَمَ اِیضاماً اللحمَ و للحم: گوشت کو تختہ پر رکھنا۔ ــ الشجرَ: درختوں کو ایک دوسرے پر رکھنا۔ اِسْتَوْضَمَ هُ: پر ظلم کرنا۔ الوَضَم جمع أَوْضام و اَوْضِمَة: قصاب کا تختہ جس پر وہ گوشت کاٹتا ہے (کہا جاتا ہے: ترکهم لحماً علی وَضَم: اس نے ان کو مصیبتوں میں ڈال کر ذلیل اور دکھی کر دیا) گوشت خشک کرنے کا پھٹا یا چٹائی، دسترخوان۔ الوَضْمَة: تقریباً دوسو انسانوں کی جماعت۔ الوَضِیمَة: تقریباً دوسو انسانوں کی جماعت، میت کا کھانا۔ المِیضَمة جمع مَوَاضِم: گوشت کا تختہ رکھنے کی جگہ۔

۲۔ الوَضِم: سبابہ اور بنصر کے درمیان کا حصہ۔

ⓒ وَضَم جمع اَوْضَام: دوکان میں گوشت رکھنے کا تختہ یا میز، گوشت کا تختہ، قصائی کا تختہ۔

وضن: وَضَنَ یَضِنُ وَضْناً الشیءَ: چیز کو تہ بہ تہ رکھنا، ایک کو دوسرے پر موڑنا، دوگنا کرنا۔ ــ النِسْعَ: گھوڑے کی زین کے تنگ کا تسمہ بننا۔ تَوَضَّنَ لَهُ: کے لئے ذلیل و عاجز ہونا، کا پیارا بننا۔ اِتَّضَنَ به: سے متصل ہونا۔ الوَضِین جمع وُضُن: تہ بہ تہ کیا ہوا، چوڑا تنگ جو تسموں یا بالوں سے بنا گیا ہو۔ کہا گیا کہ وضین کا ہودج کے لئے وہی مقام ہے جو پیٹی کا زین کے لئے ہے۔ الموضُونة: باریک بنی ہوئی زرہ یا جواہر سے بنی ہوئی زرہ۔ المِیضَنَة جمع مَوَاضِن: کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ٹوکرا یا تھیلا۔ المِیضَانَة جمع مَوَاضِین: ٹوکرا۔

وط: وَطَّ یَوُطُّ وَطًّا الوطواطُ: چمگادڑ کا آواز نکالنا۔ ــ المحملُ: کجاوہ کا چرانا۔

۲۔ وَطْوَطَ: کمزور ہونا، جلدی جلدی بولنا۔ الوَطْوَاط: کمزور عقل اور رائے والا آدمی، جلدی جلدی بولنے والا۔ جمع وَطَاوِط و وَطَاوِیط (ح): چمگادڑ۔ (ح): پہاڑی ابابیل۔ الوَطْوَاطَة: جلدی جلدی بولنے والی، چلانے والی۔

وطا: وَطِئَ یَطَأُ وَطْأً الشیءَ برجله: کو پاؤں کے نیچے روندنا۔ ــ الفرسَ: گھوڑے پر سوار ہونا۔ ــ ارضَ عدوِّه: دشمن کے ملک میں داخل ہونا۔ ــ الشیءَ: کو تیار کرنا، آسان کرنا۔ وَطُؤَ یَوْطُؤُ وَطَاءَةً و وُطُوءَةً الموضعُ: جگہ کا روندا ہوا ہونا، ہموار ہونا۔ وطّأ تَوْطِئَةً الشیءَ برجله: کو پاؤں سے روندنا۔ ــ الفراشَ: بچھونا نرم کرنا۔ ــ الامرَ: کام کو درست کرنا، ہموار کرنا۔ ــ الموضعَ: جگہ کو نرم و ہموار کرنا۔ ــ الشعرَ و فیه: لفظاً و معناً شعر کا قافیہ دہرانا۔ وَاطَأَ مُوَاطَأَةً فلاناً علی الأمر: پر کی موافقت کرنا۔ ــ فی الشعر: لفظاً و معناً شعر کا قافیہ دہرانا۔ اَوْطَأَ اِیْطَاءً فلاناً الارضَ و بالارض: سے زمین کو کچلوانا، روندوانا۔ ــ هُ فرسَهُ: کو گھوڑے پر سوار کرانا۔ ــ هُ علی الأمر: سے پر موافقت کرنا۔ ــ الشعرَ و فی الشعر: لفظاً و معناً شعر کا قافیہ دہرانا۔ تَوَطَّأَ فلاناً برجله: کو پاؤں سے روندنا، کچلنا۔ ــ الرجلَ علی الأمر: سے پر متفق ہونا۔ ــ ه علی الأمر: سے پر موافقت کرنا۔ تَوَاطَأَ القومُ علی الأمر: پر متفق ہونا۔ اِتَّطَأَ اِتِّطَاءً و اَیْتَطَأَ اِیْتِطَاءً الشیءُ: آسان ہونا، تیار ہونا۔ ــ الأمرُ: کام کا ٹھیک ہونا اور انتہا تک پہنچنا۔ اِسْتَوْطَأَ الشیءَ: کو نرم و روندا ہوا پانا۔ الوَاطِئَة: گری ہوئی کھجوریں۔ ــ الوَطْأَة: راستہ میں گزرنے والے لوگ۔ الطَّأَة و الطِئَة: سہولت، نرمی، جگہ کی نرمی اور روندی ہوئی ہونا۔ الوَطْءُ (مص) و الوَطَاء: پست و ہموار زمین۔ الوَطْأَة: وَطَأَ کا اسم مرة۔ قدم کی جگہ، دباؤ، سخت گرفت۔ الوِطَاء و الوَطَاء: فرش۔ الوَطَاءَة و الوُطُوءَة (مص): سہولت، نرمی۔ کہا جاتا ہے: انا اُحِبُّ وَطَاءَةَ العیش: میں زندگی کی نرمی چاہتا ہوں۔ الوَطِیءُ: پست، نرم، آسان، روندا ہوا۔ الوَطِیئَة: وطی کا مونث، گٹھلی نکال کر دودھ میں گوندھی ہوئی کھجور، نرم عصیدہ (آٹے گھی سے تیار کردہ کھانا) شکر ملا پنیر۔ المَوْطَأ و المَوْطِئ: قدم کی جگہ۔ المُوَطَّأ مفع: کہا جاتا ہے: رجلٌ مُوَطَّأُ الاکنافِ: شریف، نرم اخلاق والا، مہمان نواز۔ هو مُوَطَّأُ العقب: بہت سے متبعین رکھنے والا۔ المِیطَأ: پست و نرم زمین۔

ⓒ وَطِئَ یَطَأُ وَطْأً ه: کو پاؤں تلے روندنا، پر چلنا، قدم رکھنا، پر قدم جمانا، (گھوڑے) پر سوار ہونا، کو پاؤں تلے کچلنا۔ ــ ها: سے مباشرت کرنا، مجامعت کرنا۔ وَطَّأَ ه: کو ہموار کرنا، نرم کرنا، تیار کرنا۔ ــ ه ل: کو کے لئے آرام دہ بنانا (خصوصاً نشست، بستر وغیرہ)۔ ــ ه: کو کم کرنا، کاٹ ڈالنا، پردہ ڈالنا، کو نیچا کرنا۔ وَطَّأَ صوتَهُ: آواز نیچی کرنا۔ واطَأَهُ علی: سے کسی بات پر متفق ہونا۔ اَوْطَأَ ه: سے پر قدم رکھوانا، سے کو کچلوانا، روندوانا۔ وَاطَأَ علی: پر متفق ہونا، پر موافقت کرنا، تعاون کرنا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر

کام کرنا، اکٹھے یا ایک ساتھ کام کرنا، ایک دوسرے کے ہاتھ میں کھیلنا، میں ملی بھگت سے کام کرنا۔ وَطْء و وِطَاء: پست زمین، نشیب۔ وِطَاة: دباؤ، استبداد، جبر، زبردستی، مجبوری، قوت، طاقت، شدت، تشدد، سختی۔ شدید الوطاة علی: پر ظالم، پر مہلک اثر والا، پر سخت مضر نتائج کا حامل۔ اشتدت وطاة الشیء: سنگین ہونا، تکلیف دہ ہونا، صبر آزما ہونا، تھکا دینے والا ہونا۔ لاشتداد وطاة المرض: بیماری کی شدت کی وجہ سے۔ وطِی: نیچا، سپاٹ، ہموار۔ اَوْطَا: پست تر، فروتر، کمتر۔ موطأ و موطی جمع مَوَاطِی: قدم رکھنے کی جگہ، پاؤں کا سہارا، بنیاد، نقش پا، نقش قدم، پاؤں کا نشان، کھوج، قدمچہ۔ موطی الاقدام: ایک فٹ زمین۔ موطی الأقدام: زمین۔ توطِئة: آغاز، روشناسی، تعارف، تیاری۔ تمہید۔ لتوطِئة: کی تیاری میں، کے مقصد سے۔ توطِئة الصوت: آواز نیچی کرنا۔ مُوَاطَاة: موافقت، خفیہ مفاہمت، چشم پوشی، اغماض، ملی بھگت۔ تَوَاطُؤ: موافقت، خفیہ مفاہمت، چشم پوشی، اغماض، ملی بھگت۔ وَاطِی: نیچا (کپڑے وغیرہ سے دبائی ہوئی آواز) مغلوب، دھیمی، ہلکی، نرم (آواز)۔ الاراضی الواطئة: نشیبی ممالک (ہالینڈ بلجیم)۔

وطب: الوَطْب: بڑا پستان، سخت طبیعت والا۔ جمع اَوْطُب و وِطَاب اَوْطَاب و جمع الجمع اَوَاطِب: دودھ کی مشک۔ کہا جاتا ہے صِفرتْ وِطَابُهُ: وہ مر گیا یا قتل ہو گیا۔ الوَطْبَاء: بڑے پستان والی۔ سُلِبوا الوطاب: بڑی حد تک کوئی چیز دیا گیا۔ خالی الوطاب: خالی ہاتھ۔

وطح: وَطَحَ يَطِحُ وَطْحاً وَطِحَةً ہُ: کو ہاتھوں سے زور سے پیچھے ہٹانا، دھکا دینا۔ تَوَاطَحَ القوم: ایک دوسرے کے ساتھ شر و برائی کرنا یا لڑنا۔ ـــت الابل علی الحوض: اونٹوں کا حوض پر بھیڑ کرنا۔ الوَطَح (مص): کھر یا چنگل میں لگی ہوئی مٹی وغیرہ۔

وطد: وَطَدَ يَطِدُ وَطْداً الشیءَ: کو مضبوط کرنا، پائیدار کرنا، بھاری کرنا۔ صفت مفعولی: وَطِيد و مَوْطُود۔ ـــ الارض: زمین کو کوٹنا تاکہ سخت ہو جائے۔ ـــ الشیءَ الیه: کو اپنے سے ملانا۔ ـــ لهُ منزلة: کو کے لئے تیار کرنا۔ ـــ ہُ الی الارض: کو زمین کی طرف دبانا، جھکانا۔ ـــ الشیءُ: ثابت و قائم رہنا، چلنا (ضد)۔ ـــ الصخرَ علی الغار: غار پر پتھر تہ بتہ رکھنا۔ وَطَّدَ الشیءَ: کو مضبوط کرنا، پائیدار کرنا، بھاری کرنا۔ تَوَطَّدَ: مضبوط ہونا، ثابت ہونا۔ کہا جاتا ہے وَطَّدَهُ فتوطّدَ: اس نے اسے مضبوط کیا تو وہ مضبوط ہو گیا۔ توطدت له عندهم منزلة: ان کے ہاں اس کی منزلت پائیدار ہو گئی۔ الوَاطِد و الوَطِيد و المَوْطُود: ثابت، مضبوط پائیدار۔ (جمع الأوطاد) الوَطِيدَة: پہاڑ۔ وطائد کا واحد جن کا معنی ہے: عمارت کی بنیادیں، ہانڈی کے چولہے کے پتھر۔ کہا جاتا ہے اِنَّ من وطائد الحق: تو سچائی کا ستون ہے۔ لَهُ عندهُ وَطِيدة: اس کے نزدیک اس کا پائیدار مرتبہ ہے۔ المِيطَدَة: درمٹ۔ المتواطد: پائیدار، سخت، ایک دوسرے کے پیچھے۔

وَطَّدَ يُوَطِّدُ تَوْطِيداً وَ وَطَّدَ ہُ: کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، مضبوط بنانا، جوڑنا، رشتہ اتحاد مضبوط کرنا، (زمین) کو بزور دبانا، کو ٹھونس ٹھونس کر بھرنا، کوٹنا، کی کوٹائی کرنا۔ ـــ ہُ ل: (راستہ) کو کے لئے ہموار کرنا، (زمین) کو کے لئے تیار کرنا۔ وطد ثقتهُ فی: پر پختی سے بھروسہ کرنا، پر یقین کرنا، اعتماد کرنا۔ وطد العَزْمَ أن: کا عزم مصمم کرنا، کا پختہ فیصلہ کرنا۔ وطد عُرَی الصحبة: دوستی کے بندھن مضبوط کرنا۔ وطد أقدامهُ فی: میں پاؤں رکھنے کی جگہ حاصل کرنا۔ وَطِيد: مضبوط، ٹھوس، سخت، غیر متزلزل۔ وطيدُ الأمل ب: کی قوی امید رکھنے والا، کا یقین رکھنے والا۔ مِيطَدَة: موگری، دھرمٹ، ٹھونکنے کوٹنے کی مشین۔ توطيد السلم: امن کی حفاظت کرنا اور اسے برقرار رکھنا۔ توطيدُ سعر الفرنك: فرینک (سکہ) کا استحکام۔ مُوَطَّد: مضبوط، قوی، ٹھوس، سخت۔ مُوَطَّدُ الأركان: مضبوطی سے قائم، مضبوط بنیادوں پر منحصر۔

وطر: الوَطَر جمع اَوْطَار: حاجت، مطلوب۔ کہا جاتا ہے قضی منه وَطَرَهُ و اَوْطارَهُ: اس نے اس سے اپنا مطلوب پا لیا۔ وَطَر جمع اَوْطَار: خواہش، مرضی، تمنا، حسرت، مقصد، مدعا، غرض، غایت، ارادہ، عزم۔

وطس: وَطَسَ يَطِسُ وَطْساً ہُ: کو بوٹ وغیرہ سے زور سے مارنا۔ ـــ الشیءَ: کو توڑنا، کوٹنا۔ تَوَاطَسَ الموجُ: موجوں کا آپس میں ٹکرانا۔ ـــ القومُ علیّ: قوم نے مجھ پر ہجوم کیا۔ الوَطَّاس: چرواہا۔ الوَطِيس جمع اَوْطِسَة و وُطُس: تنور، بھٹی، میدان جنگ۔ کہا جاتا ہے حَمِيَ الوَطِيسُ: لڑائی سخت ہو گئی، جنگ میں شدت آ گئی۔ الـوَطِيسَة: معاملہ کی سختی۔ حَمِيَ الوَطِيسُ: سخت لڑائی ہوئی۔ حَامِيُ الوطيس: سخت، خوفناک، اندوہناک (لڑائی)۔

وطش: ۱ وَطَشَ يَطِشُ وَطْشاً ہُ: کو مارنا۔ ـــ ہُ عن فلان: کو سے دور کرنا، ہٹانا۔ وَطَّشَ القومَ عنه: قوم کو کسی سے دور کرنا۔ کہا جاتا ہے ضربوہ فما وَطَّشَ الیهم: لوگوں نے اس کو مارا مگر اس نے ان کی طرف ہاتھ تک نہیں اٹھایا اور نہ انہیں اپنے سے دور کیا۔ ۲ وَطَشَ يَطِشُ وَطْشاً الحديثَ او الخبرَ: بات یا خبر کا کچھ حصہ بیان کرنا۔ ـــ الكلامَ: غیر واضح کلام کرنا۔ کہا جاتا ہے ما وطش لنا بشیءٍ: اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ وَطَّشَ الحديثَ: بات کا کچھ حصہ بیان کرنا۔ ـــ فيه: پر اثر کرنا۔ ـــ لهُ: کیلئے تقریر، رائے یا کام تیار کرنا۔ ـــ ہُ: کو تھوڑا دینا۔ کہا جاتا ہے سألوہُ فما وَطَّشَ اليهم بشیءٍ: انہوں نے اس سے سوال کیا مگر اس نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ ۳ وَطَشَ يَطِشُ وَطْشاً ہ: کو مارنا، تھپڑ لگانا، طمانچہ مارنا، چپت رسید کرنا۔

وطف: ۱ وَطَفَ يَطِفُ وَطْفاً: شکار وغیرہ کو بھگانا اور اس کا پیچھا کرنا۔ ۲ وَطِفَ يَوْطَفُ وَطَفاً: گھنی آبروؤں یا پلکوں والا ہونا۔ صفت اَوْطَف مونث وَطْفَاء جمع وُطْف۔ ـــ المطرُ: بارش کا زور سے برسنا۔ الوَطَف مص: جب بادل لٹکے ہوئے ہوں تو اس وقت کہتے ہیں فی السحابة وَطَفٌ۔ الوَطْفَة: تھوڑے بال۔ ظلام اَوْطَفُ: سخت اندھیرا۔ سحابٌ اَوْطَف: زمین کے نزدیک آیا ہوا بادل۔ عام اَوْطَف: فراخ سالی۔ عيش اَوْطَف: خوشحالی۔ سحابة وَطْفَاء: پانی سے بھرا بادل۔ ۳ اَوْطَف مونث وَطْفَاء: گھنی آبروؤں والا، گھنی بھوؤں والا۔ الوَطْفَاء: پانی بھرا نیچا بادل۔

وطق: الوِطَاق جمع وِطَاقات: خیمہ (ترکی لفظ)۔

وطم: وَطَمَ يَطِمُ وَطْماً ہُ: کو روندنا۔ ـــ السترَ: پردہ لٹکانا۔ وَطِمَ يَوْطَمُ وَطْماً و وُطِمَ الرجلُ: کا بول و براز رک جانا۔

وطن: وَطَنَ يَطِنُ وَطْناً بالمكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ وَطَّنَ نفسَهُ علی الأمرِ وللأمر: کسی کام پر یا اس کے لئے خود کو آمادہ کرنا یا مائل کرنا۔ ـــ البلدَ: کسی شہر کو اپنا وطن بنانا۔ اَوْطَنَ ہُ علی الأمر: کے ساتھ کسی کام کو کرنے کی ٹھانا۔ اَوْطَنَ اِيطاناً بالمكان: کسی جگہ اقامت کرنا۔ ـــ واتَّطَنَ

واستَوطَنَ البلدَ: کسی شہر کو اپنا وطن بنانا۔ توَطَّنَتْ نفسُہُ علی کذا: پر آمادہ ہو جانا۔ ــــ البلدَ: کسی شہر کو اپنا وطن بنانا۔ الوطَن جمع اوْطان: سکونت کی جگہ خواہ وہ جائے پیدائش ہو یا نہ ہو، وطن، مویشی باندھنے کی جگہ۔ المَوْطِن جمع مَوَاطِن: وطن، لڑائی کا میدان۔ المُوَاطِن: ہم وطن۔ المِيطان: وہ جگہ جہاں سے گھڑ دوڑ میں گھوڑے چھوڑے جاتے ہیں، انتہا۔

وَطَنَ يَطِنُ وَطْناً ب: میں رہنا، سکونت کرنا، اقامت کرنا، ٹھہرنا۔ وطَّـــن ہ: کسی جگہ کو رہائش کے لئے چننا، کسی جگہ میں آباد ہونا، کسی جگہ کو رہائش گاہ بنانا۔ وَطَّنَ نفسَہُ علی: کا عادی ہونا، سے ہم آہنگ ہونا، کے موافق یا مطابق بننا، پر راضی ہو جانا، کو برداشت کرنا، کے لئے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا، کا مصمم ارادہ کرنا، کو کرنا، جی میں ٹھان لینا۔ توَطَّن ہ،ب: میں رہنے لگنا، میں آباد ہونا۔ توَطَّنَتْ نفسُہُ علی بمعنی وَطَّنَ نفسَہُ علی۔ استوطن ہ: کو رہائش کے لئے منتخب کرنا، (ملک) میں آباد ہونا، کو وطن بنانا، میں رہائش اختیار کرنا، میں مستقل طور پر رہنا، میں جڑ پکڑنا، شہریت حاصل کرنا، کا خوگر ہونا، کو کی آب و ہوا کا راس آ جانا۔ وَطن جمع اوْطان: وطن، اپنا وطن، آبائی وطن، گھر۔ اهلُ وطنہ: کے ہم وطن، برادر وطن۔ حبُّ الوطن: حب الوطنی۔ شائع الوطن: جہاں گشت، پردیسی، آزاد خیال، وسیع المشرب۔ وطنی: وطن کا، مرز بوم کا، دیسی، ملکی، گھریلو، خانگی، وطن پرست، محب وطن، قومی، قوم پرور، قوم پرست (جمع) قوم پرست، قومی، آزادی کی تحریک کا شیدائی وطن پرست، محب وطن۔ مصنوعاتٌ وطنية: گھریلو مصنوعات، ملکی مصنوعات۔ وطَنية: قوم پرستی، وطن پرستی، قومی آزادی کی تحریک سے ہمدردی، قومی جذبہ، حب الوطنی۔ موطِن جمع مواطِن: گھر، قیام گاہ، سکونت، جائے بود و باش، وطن، اصلی علاقہ، ارض وطن، سرزمین وطن، مستقل رہائش کا شہر، پیدائشی ملک، اپنا ملک، آبائی ملک، جگہ، علاقہ، مقام، ضلع، حلقہ، خطہ، صحیح جگہ، صحیح وقت۔ موطِنُ الضَّعف: نرم جگہ، دکھتی جگہ، کمزور جگہ، کمزوری۔ وضع يدَہُ علی موطنِ العلّة: کھلی یا دکھتی جگہ پر انگلی رکھنا یا دکھتی جگہ کو چھونا۔ الموطن الوضيع: سب سے نچلا نقطہ، کم مارک، تہ، پیندا، بنیاد، بنیادی حصہ۔ مُوَاطِن: ہم وطن، ہم شہر، برادر وطن۔ مواطن عالمی: ساری دنیا کا شہری۔ مُسْتَوطِن: دیسی، ملکی، مقیم، باشندہ، گہری بنیاد والا، علاقائی یا مقامی۔ مُستَوطِن: ملکی دیسی، گھریلو، مقیم، گہری بنیاد والا۔ استیطان: آبادی کے لئے آنا، آباد ہونا، نو آبادی، آباد کاری، استعمار، تیونس میں ایک خاص محصول یا خراج۔

وطی: وَطَّی توطِيَةً الشيءَ: کو نیچے کرنا، کا مرتبہ گھٹانا۔ توَطَّی: نیچا ہونا، مرتبہ کا گھٹ جانا۔ الواطی عند العامة: کمینہ، نشیبی، نیچا۔ کہتے ہیں: رجُلٌ واطٍ و مکانٌ واطٍ: کمینہ آدمی، نیچی جگہ۔

وظب: وَظَبَ يَظِبُ وُظُوباً الامرَ و علی الامر: پر ہمیشگی کرنا۔ صفت: واظب۔ ــــ وَظْباً الشيءَ: کو روندنا۔ واظَبَ مُواظَبَةً علی الامر: کسی کام پر مداومت کرنا۔ ــــ ہُ علی خدمة فلان کو کسی کی خدمت پر اکسانا۔ تواظبت علیه الرياحُ: پر ہواؤں کا لگاتار یا پے در پے آنا۔ المِيظَب: گول تیز کیا ہوا پتھر۔ المَوْظُوب (مفع) کہا جاتا ہے: رجُلٌ مَوظُوب: وہ شخص جس کے مال پر مسلسل آفتیں آئیں۔

وَظَبَ يَظِبُ وُظُوباً ہ/علی: کو متواتر کرنا، باقاعدگی سے کرنا، کو کرتے رہنا، کو ہمیشہ کرنا، کو کرنا جاری رکھنا۔ واظَبَ: مندرجہ بالا معانی نیز واظَبَ علی: پر ثابت قدم رہنا، میں محنت سے لگا رہنا، کو ثابت قدمی سے کرنا۔ مُواظَبة: سرگرمی، تندہی، جاں فشانی، محنت، مشقت، ثابت قدمی، استقلال، مستقل مزاجی۔ مُواظِب: محنتی، مستعد، مستقل مزاج ثابت قدم، متواتر، پے در پے۔

وظر: وَظِرَ يَوظَرُ وَظَراً: موٹا اور پر گوشت ہونا۔ صفت: وَظِر۔

وظف: وَظَفَ يَظِفُ وَظْفًا البعيرَ: اونٹ کے پاؤں کی رسی چھوٹی کرنا، کی پنڈلی کی ہڈی پر مارنا۔ ــــ القومَ: کی پیروی کرنا۔ ــــ الشيءَ علی نفسه: کو اپنے پر لازم کرنا، مقرر کرنا۔ وَظَّفَ ہ کا روزینہ مقرر کرنا۔ ــــ علیه عملاً: کے لئے کام مقرر کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَظَّفَ لہُ الرزقَ ولدابته العلف: اس نے اس شخص کے لئے رزق اور اپنے جانور کے لئے چارہ مقرر کیا۔ وظّف علی الصبی کلَّ یوم حفظ آیات مِن کتاب الله: اس نے بچے کے لئے کتاب اللہ کی کچھ آیات مقرر کیں کہ انہیں حفظ کرے۔ واظَفَ ہُ: سے موافقت کرنا اور برابر اس کے ساتھ رہنا۔ اِستَوظَفَ الشيءَ: سب چیز لے لینا۔ الوَظِيف جمع وُظُف و اَوْظِفَة (ع ا): گھوڑے اونٹ وغیرہ کی پنڈلی یا اگلی ٹانگ کی باریک جگہ، سخت زمین پر چلنے والا۔ کہا جاتا ہے: جاءت الابلُ علی وظيفٍ واحدٍ: اونٹ آگے پیچھے قطار میں آئے۔ الوَظِيفة جمع وَظائِف و وُظُف: مقرر کردہ کام، کھانا و رزق وغیرہ۔ عہد، شرط، منصب، خدمت۔ کہا جاتا ہے: للدنيا وَظائف: دنیا بہت سی تبدیلیاں رکھتی ہے۔

وَظَّفَ ہ علی: کو کوئی کام دینا یا سونپنا، یا تفویض کرنا، کوئی چیز خصوصاً ٹیکس کو کسی پر لاگو کرنا، سے کسی کو بوجھل کرنا، کوئی بوجھ کسی پر ڈالنا، سے کسی کو زیر بار کرنا۔ ــــ ہ: کو کوئی عہدہ دینا، کو کسی منصب پر فائز کرنا، کو ملازمت دینا، کو کرائے پر لینا۔ ــــ ہ روپیہ لگانا۔ توَظَّفَ: کسی عہدہ پر فائز ہونا، مقام حاصل کرنا، ملازم ہونا، کسی عہدہ پر فائز ہونا، کسی حیثیت میں کام کرنا، کوئی کام رکھنا، برسر روزگار ہونا۔ توَظَّفَ فی الحکومة: حکومت میں بطور اہلکار کام کرنا۔ وَظِيفة جمع وَظائِف: روزانہ راتب، تنخواہ، عہدہ، درجہ، مقام، منصب، نوکری ملازمت، کام، اہلکاری، دفتری حکومت، بیوروکریسی، فرض، مفوضہ کام، (سکول کی طرف سے دیا ہوا) گھر پر کرنے کا کام، سبق، ہوم ورک، ملازمت، سروس، خدمت، کام، فرض منصبی، وظیفہ۔ أدَّی وظيفة: عہدہ پر کرنا، فرض ادا کرنا، کوئی کام کرنا۔ وظائف خالية: خالی آسامیاں، خالی جگہیں، خالی جگہوں یا ضرورت سے کا اخباروں میں اشتہار۔ عِلمُ الوظائف یا علم وظائف الاعضاء: علم اعضاء، عضویات (physiology)۔ وَظِيفی: فرائض سے متعلق۔ توظيف: ملازمت برسر روزگار ہونا، کسی عہدہ پر تقرر۔ توظيف المال: روپیہ لگانا، رقم لگانا، سرمایہ کاری۔ مُوَظَّف: مقررہ (تنخواہ) ملازم، مقرر کیا ہوا، تعینات کیا ہوا جمع موظفون: ملازم، مزدور، اہلکار، آفیسر، سول سرونٹ۔ مُوَظَّفُ الحکومة: گورنمنٹ ملازم، حکومتی اہلکار، افسر۔ مُوَظَّف عُمُومی: عوامی اہلکار۔ أكبرُ الموظفين: سینئر اہلکار یا آفیسر۔

وع: وَعْوَعَ وَعْوَعَةً و وَعْوَاعاً الكلبُ او ابن آوی: کتے اور گیدڑ کا بھونکنا، چیخنا۔ ــــ القومُ: شور مچانا۔ ــــ القوم کو زور سے ہلانا۔ الوَعّ (ح): گیدڑ، گیدڑ کی آواز کی نقل، بچے کے رونے کی آواز۔ الوَعْوَاع (مص): لوگوں کی شور مچانے والی جماعت، بیہودہ گو، گیدڑ یا کتے کی آواز۔ الوَعْوَع جمع وَعاوِع (ح): گیدڑ، لومڑی، فصیح خطیب، بیابان، بیدبان۔

وعب: وَعَبَ یَعِبُ وَعْباً الشیءَ: سب چیز لے لینا۔ اَوْعَبَ اِیْعَاباً الشیءَ: سب چیز لے لینا، کو جمع کرنا۔ — الأمرَ: سے فارغ ہونا۔ — الرجُلَ: کی پوری زبان کاٹ لینا۔ — الشیءَ فی الشیءِ: چیز کو چیز میں پورا کا پورا داخل کرنا۔ — فی مالِه: اپنے مال میں اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا۔ — القومُ: سب لوگوں کا نکل جانا۔ اِسْتَوْعَبَ اِسْتِیْعَاباً الشیءَ: سب چیز لے لینا، کو جڑ سے اکھیڑنا۔ — الحدیثَ: بات پوری حاصل کرنا۔ — المکانُ او الوعاءُ الشیءَ: جگہ یا برتن کا چیز کے لئے کافی ہونا۔ الوَعْب جمع وِعَاب: کشادہ راستہ، شاہراہ۔ الوَعِیب: کشادہ۔ بیتٌ وَعِبٌ و وعاءٌ وَعِبٌ: کشادہ گھر اور کشادہ برتن۔ المُوْعَب: کشادہ کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے: هذا اَوْعَبُ لکذا: یہ فلاں چیز کو حاصل کرنے کے لائق ہے۔

ⓒ وَعَبَ یَعِبُ وَعْباً ہ: کو پوری یا ساری کی ساری لے لینا۔ اَوْعَبَ ہ: کو پوری یا ساری کی ساری لے لینا۔ اَوْعَبَ ہ فی: کو میں ڈالنا، داخل کرنا۔ اِسْتَوْعَبَ: بمعنی وَعَبَ نیز اِسْتَوْعَبَ ہ: کو جڑ سے اکھاڑنا، کا خاتمہ کرنا، کو بنیاد سے اکھیڑنا، کا قلع قمع کرنا۔ — ہ بین ذراعیہ: سے گلے ملنا، کو گلے لگانا، کو آغوش میں لینا، سے ہم آغوش ہونا، کا بازوؤں سے احاطہ کرنا، کو بازوؤں سے گھیر لینا۔ — ہ: پر مشتمل ہونا، کو پکڑنا، پکڑے رکھنا، پکڑے رہنا، کو شامل کرنے کے قابل ہونا، کے لئے گنجائش رکھنا، کو سمجھنا، کا ادراک کرنا۔ اِستیعاب: گنجائش، وسعت، ظرف، سمائی، مطالعہ، مکمل ادراک، پکڑ، گرفت۔

وعث: وَعِثَ یَوْعَثُ وَعَثاً و وَعْثاً الطریقُ: راستہ کا دشوار گزار ہونا۔ — الأمرُ: معاملہ کا الجھا ہوا اور خراب ہونا۔ صفت: وَعْثٌ و وَعِثٌ و توعَثٌ و اَوْعَث — وَعْثَات یدُهُ: کا ہاتھ ٹوٹ جانا۔ صفت وَعْثَة۔ وَعُثَ یَوْعُثُ وُعُوثَةً الطریقُ: راستہ کا دشوار گزار ہونا — الامر: معاملہ کا الجھا ہوا اور خراب ہونا۔ صفت: وَعْثٌ وَعِثٌ و تُوعُثٌ و اَوْعَثُ۔ وَعَّثَ تَوْعِیثاً ہ عن الأمر: کو سے روکنا۔ اَوْعَثَ: دشوار گزار راستہ میں پڑنا، چلنا۔ — المتکلّمُ: کلام نہ کرسکنا۔ — فلاناً: کو دشوار گزار راستہ میں چلنے پر اکسانا۔ الرجُلُ: الجھاؤ پیدا کرنا۔ — الأمرَ: کو خراب کرنا، بگاڑنا۔ — فی مالہ: مال میں اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا۔ الوَعْث (مص) جمع وُعْث و وُعُوث: ٹوٹی ہوئی ہڈی، لاغری، سخت دشوار، دشوار گزار راستہ، نرم زمین جس میں پاؤں دھنس جائیں، مشکل اور سخت کام۔ الوَعْثاء: مشقت، تھکن، تکان، ہر بری خصلت۔ کہا جاتا ہے: رکب الوَعْثاءَ: اس نے گناہ کیا، گناہ کا ارتکاب کیا۔ الوُعُوث: سختی، برائی۔ المَوْعُوث: ناقص حسب کا۔

ⓒ وَعْث و وَعِث: مشکل، سخت، تکلیف دہ، محنت طلب، کٹھن، تھکا دینے والا۔ وَعْثَاء: دشواری، تکلیف، پریشانی، مصیبت، سختی، بے آرامی۔

وعد: وَعَدَ یَعِدُ وَعْداً وعِدَةً و مَوْعِداً و مَوْعِدَةً و مَوْعُوداً و مَوْعُودَةً فلاناً الأمرَ و بالامر: کسی سے کسی کام کرنے کا وعدہ کرنا۔ — ت الأرضُ: زمین کا اچھی امید دلانا۔ — وَعِیْداً الرجُلَ: کو دھمکی دینا۔ — الفحل: سانڈھ کا بڑبڑانا۔ واعَدَ مواعَدَةً ہ: ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ — ہ الموضعَ او الوقتَ: سے وعدہ پورا کرنے کے لئے جگہ یا وقت مقرر کرنا۔ واعَدَهُ فَوَعَدَهُ یَعِدُهُ: ایک کا دوسرے سے زیادہ وعدہ کرنے والا ہونا۔ اَوْعَدَ اِیْعاداً ہ: سے وعدہ کرنا، کو دھمکی دینا۔ تَوَعَّدَهُ: کو دھمکی دینا۔ تَواعَدَ القومُ: ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ اِتَّعَدَ اِتِّعَاداً: وعدہ قبول کرنا اور اس پر اعتبار کرنا۔ — القومُ: ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ — ہ: سے وعدہ کرنا۔ اِیْتَعَدَ یاتَعِدُ صفت مُوتَعِد: اِتَّعَدَ کے معنی میں ضعیف لغت ہے۔ اِسْتَوْعَدَهُ: سے وعدہ کرانا۔ العِدَة (مص): وعدہ۔ الوَعْد (مص): (بعض کے نزدیک اس کی جمع نہیں آتی جب کہ بعض کے نزدیک اس کی جمع وُعُود ہے): وعدہ۔ المَوْعِد (مص) جمع مَوَاعِد: وعدہ، وعدہ کرنے کی جگہ، وعدہ کا زمانہ، عہد۔ المِیْعَاد جمع مَوَاعِید: وعدہ کا وقت، وعدہ کی جگہ، بمعنی المُواعَدَة۔ المَوْعُود مفع: وعدہ کیا ہوا۔ الیومُ الموعود: قیامت کا دن۔

ⓒ وَعَدَ یَعِدُ وَعْداً: وعدہ کرنا، قول دینا۔ — ہ ہ یا ہ ب: سے کا وعدہ کرنا۔ — ہ ب: کو کی دھمکی دینا۔ وَعَدَ نفسه بأن: اپنے آپ سے وعدہ کرنا کہ وہ، کا ارادہ ہونا۔ وَعَدَ بشرفِهِ: اپنی عزت کی قسم کھا کر عہد کرنا، قول دینا۔ واعَدَ: انتظام کرنا۔ — ہ ہ: کے ساتھ دیئے گئے وقت یا کسی جگہ کے لئے ملاقات کا انتظام کرنا، کے ساتھ ملاقات کا وقت یا جگہ مقرر کرنا۔ اَوْعَدَ: بمعنی وَعَدَ۔ تَوَعَّدَ: دھمکی دینا۔ — ہ: کے لئے خطرہ بننا۔ تَواعَدَ: ملاقات کا وقت مقرر کرنا۔ اِتَّعَدَ أن: مفاہمت یا سمجھوتہ ہو جانا کہ، آپس میں متفق ہو جانا کہ، انتظامات کرنا کہ...... وَعِید: دھمکیاں، وعدے۔ عِدَة و وَعْد جمع وُعُود: وعدہ۔ وَعِیدی: دھمکی آمیز، خطرناک، دھمکی کی طرز کا، تہدید آمیز۔ مَوْعِد و مَوْعِدَة جمع مَوَاعِد: وعدہ، عہد و پیمان، حلف، قسم، عہد، سوگند، اقرار، ذمہ داری، وعدہ کی ملاقات، وعدہ کی ملاقات کا مقام، تاریخ، ملاقات کا وقت، ملاقات کا وقت اور جگہ، مقررہ وقت، وقت، تاریخ، مقررہ حد، آخری مدت، سالانہ تقریب، سالگرہ۔ مِیعَاد جمع مَوَاعِید: وعدہ، ملاقات کا وقت، تاریخ، ملاقات کا وقت اور جگہ، مقررہ وقت، متفقہ وقت، آخری مدت، مقررہ حد، تاریخ (خصوصاً قرض ادا کرنے کی تاریخ، مشورہ کا وقت، دفتری وقت یا اوقات، عجائب گھر وغیرہ کے اوقات، ٹرینوں، بسوں وغیرہ کی روانگی کا وقت)۔ فی المیعاد یا فی میعادِه: بروقت، پابندیٔ وقت کے ساتھ۔ مِن غیر مِیعاد: قطعاً غیر متوقع طور پر، اچانک۔ کان علی میعادٍ مع: سے ملاقات کے وقت کا حامل ہونا۔ بیان المواعید: ریلوے کا ٹائم ٹیبل۔ مِیعادُ الاکل: کھانے کا وقت۔ مِیعادُ التسلیم: حوالگی یا سپردگی کی تاریخ (date of delivery)۔ مِیعادُ المرأة: ماہواری، حیض۔ مواعیدُ عُرقوبیه: فریب دہ وعدے۔ ارض المیعاد: وعدہ کی سرزمین، ارض موعود۔ مُواعَدة: انتظام، اتفاق، ملاقات کا وقت اور جگہ، تاریخ۔ ایعاد: دھمکی۔ تَوَعُّد: دھمکی۔ تَوَعُّدِی: دھمکی آمیز، تہدید آمیز، خطرناک، دھمکی کی طرز کا۔ موعود: وعدہ شدہ مقررہ، طے شدہ (وقت)۔ مَوْعُود و مَوْعُودَة جمع مواعید: وعدہ۔

وعر: وَعَرَ یَعِرُ وَعْراً فلاناً: کو اس کی حاجت سے روکنا، کو ارادہ سے باز رکھنا۔ — وَعْراً و وُعُوراً و وَعِرَ یَوْعَرُ و یَعِرُ وَعَراً المکانُ: جگہ کا سخت ہونا، دشوار گزار ہونا۔ صفت: وَعْرٌ۔ وَعُرَ یَوْعُرُ وَعَارَةً و وُعُورَةً المکانُ: جگہ کا سخت ہونا، دشوار گزار ہونا۔ — الشیءُ: تھوڑا ہونا۔ صفت: وَعْرٌ۔ وَعَّرَ المکانَ: جگہ کو سخت کرنا، دشوار گزار بنانا۔ — الرجُلَ: کو اس کی حاجت سے روکنا، ارادہ سے باز رکھنا۔ — المتکلّمَ: کی بات کاٹنا۔ اَوْعَرَ اِیعاراً به الطریقُ: پر راستہ کا دشوار گزار ہونا اور اسے دشوار گزار جگہ پہنچانا۔ — المکانُ او الطریقُ: جگہ یا راستہ کو دشوار گزار پانا۔ الرجُلُ: سخت اور دشوار گزار زمین میں جا پڑنا، کم مال والا ہونا۔ — الشیءَ: کو کم کرنا۔ تَوَعَّرَ المکانُ: جگہ کا سخت اور دشوار گزار

ہونا۔ ــــ الامرُ عليَ: معاملہ کا مجھ پر سخت و مشکل
ہونا۔ الوجِلُ: سختی کرنا۔ ــ في الكلام: کلام میں
سرگشتہ و حیران ہونا۔ ــــ ہ في الكلام: کو کلام میں
حیران کرنا۔ اِستَوعَرَ المكانَ او الطريقَ: جگہ یا
راستہ کو سخت و دشوار گزار پانا۔ الواعر (فا): مشکل،
سخت جگہ۔ الوَعر جمع اَوعُر و وُعُور و اَوعار
و وُعُورة: خوفناک اور وحشتناک جگہ، سخت جگہ۔
سكانٌ و عرٌ و طريقٌ و عرٌ و مطلبٌ و عرٌ:
سخت جگہ، سخت راستہ، سخت مطلب۔ رجُلٌ وَعرُ
المعروفِ: کم خیر والا آدمی۔ الوَعر جمع
اَوعار و الوَعير جمع اَوعار والاَوعَر: سخت
جگہ۔ الوَعرِيّ من الكـ... کم استعمال ہونے والا
اور ذوق پر گراں و ثقیل کلام۔

ⓒ وَعَرَ يَعِرُ وَعْراً و وُعُوراً و وَعِرَ يَوعَرُ وَعَراً و
وَعُرَ يَوعُر وَعارةً و وُعُورةً و تَعَوَّرَ: زمین کا
ناہموار، دشوار گزار، سنگلاخ، سخت اور دشوار ہونا۔
وَعَر: چٹان کے ٹکڑے، ریزے، ناہموار بے راستہ
زمین۔ وَعِير و وَعر جمع وُعُور و اَوعار:
چٹان کے ٹکڑوں سے ڈھکا ہوا، شگاف دار، ناہموار،
پھٹا ہوا، چیرا ہوا، بنجر، ناہموار، بے راستہ، سخت، دشوار۔
وُعُور: ناہمواری، مشکل۔ وعورةُ الأرض: دشوار
زمین۔ اَوعَر: زیادہ ناہموار، زیادہ سخت۔

وعز: وَعَزَ يَعِزُ وَعْزاً و وَعَّزَ تَوعِيزاً و اَوعَزَ ايعازاً
اليه في كذا أن يفعله او يتركه: سے آگے بڑھ
کر اشارہ کرنا کہ وہ فلاں کام کرے یا ترک کردے۔

ⓒ اَوعَزَ في/ب إلي: کا کسی کو خیال دلانا۔ ــــ إلی
ب/في: کو کا اشارہ کرنا، کو کوئی چیز تجویز کرنا، کے دل
میں کچھ ڈالنا یا کے دل میں ڈالنا کہ وہ کچھ کرے، کو کا
مشورہ دینا۔ ــ الی ب: کو براُکسانا، کو حکم دینا کہ وہ
کچھ کرے۔ ایعاز: صلاح مشورہ، ہدایت، سفارش،
تجویز، اطلاع، اشارہ۔ اِيعازي: مشاورتی، ماہرانہ،
سفارشی، الہامی۔ مُوعَزٌ به: کسی اعلیٰ حاکم کی طرف
سے تجویز کردہ، تلقین کردہ۔

وعس: وَعَسَ يَعِسُ وَعْساً الشيءَ: کو روندنا۔ ــ هُ
الدهرُ: زمانہ کا کسی کو تجربہ کار بنانا۔ واعَسَ هُ: سے
رات کو تیز چلنے میں مقابلہ کرنا۔ ــ ت الابلُ: اونٹوں
کا گردن لمبی کرکے لمبے لمبے قدموں سے چلنا۔
اَوعَسَ ايعاساً القومُ: ریتلی زمین میں چلنا،
اندھیرے میں چلنا۔ ــ ت الابلُ: اونٹوں کا گردن
لمبی کرکے لمبے لمبے قدموں سے چلنا۔ الوَعْس (مص)
جمع اَوعاس: اثر، ریت، جس میں چلنا دشوار ہو اور
قدم گڑ گڑ جائیں (ن): ایک درخت جس سے
چھڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ الــوَعْسَة: ریت جس
میں قدم وغیرہ گڑ گڑ جائیں۔ الأَوعَس جمع وُعْس
و اَوعُس و جمع الجمع اَواعِس: نرم ریت
والی جگہ جس میں چلنا دشوار ہو۔ الــوَعْســاء: سبزی
والا، ریتلا ٹیلہ۔ وَعْساءُ الــرمــل: ہموار ریت۔
الــمَوعِس: بمعنی: الوَعْس۔ المِيعاس جمع
مَــواعِيــس: نرم ریت، زمین جس پر کوئی چلا نہ ہو،
راستہ۔ المُوعَس: چلتا ہوا راستہ۔

ⓒ وَعَسَ يَعِسُ وَعَسْاه: قسمت کا کسی کو تجربہ کار اور
عقلمند بنانا۔ وَعْس جمع اَوعاس: دل دل، ریگ
رواں۔ مِيعاس: ریگ رواں، دلدل۔

وعط: الوعاط (ن): زرد گلاب۔

وعظ: وَعَظَ يَعِظُ وَعْظاً و عِظَةً هُ: کو نصیحت کرنا، کو
ایسی باتوں کی طرف متوجہ کرنا جو توبہ اور کردار کی
اصلاح کا باعث ہوں۔ اِتَّعَظَ: نصیحت قبول کرکے
اس پر عمل کرنا۔ الواعِظ جمع واعِظون و وُعّاظ
(فا): نصیحت کرنے یا، وعظ کرنے والا۔ العِظَة
جمع عظات: نصیحت، وعظ۔ الوَعْظَة جمع
وَعْظات: وعظ کا اسم مرۃ، وعظ و نصیحت۔ الوَعّاظ:
واعظ کا اسم مبالغہ، بہت وعظ کرنے والا۔ الـمَوعِظَة
جمع مَواعِظ: وعظ و نصیحت۔

ⓒ وَعَظَ يَعِظُ وَعْظاً و عِظَةً ہ: کو نصیحت کرنا، کو وعظ و
نصیحت یا پند و موعظت کرنا، کی ضمیر کو اپیل کرنا، کو
سمجھانا، نشیب و فراز دکھانا، کو تاکید کرنا۔ ــ ہ عن: کو
سے متنبہ کرنا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ اِتَّعَظَ: سمجھ جانا،
متنبہ ہونا، خبردار ہونا، نصیحت پکڑنا۔ ــ ب: سے سبق
سیکھنا، سے تنبیہ یا آگاہی حاصل کرنا۔ عِظَة جمع
عِظــات: وعظ، سبق، نتیجہ، تنبیہ، آگاہی، نصیحت،
ہدایت۔ وَعْظ و وَعْظَة: نصیحت، ہدایت، فہمائش،
تنبیہ، آگاہی، وعظ۔ مَوعِظَة جمع مَواعِظ:
مذہبی تاکید یا نصیحت، روحانی مشورہ، تاکید، تاکیدی
گفتگو، سخت سبق، شدید سرزنش۔ واعظ: وعظ کرنے
والا، نصیحت کرنے والا۔

وعف: وَعَفَ يَوعَفُ وُعُوفاً البصرُ: نظر کا کمزور
ہونا۔ الوَعْف جمع وِعاف: سخت جگہ جس میں
پانی رستا رہے۔

وعق: ۱۔ وَعِقَ يَعِقُ وَعْقاً عليه: پر جلدی کرنا۔ کہا جاتا
ہے: ما اَوعَقَهُ: وہ کس قدر تیز ہے؟ (تعجب کے
اظہار کے لئے آتا ہے)۔ الوَعْقَة: ایک بار۔

۲۔ وَعَقَ يَعِقُ وَعْقاً وَعاقاً و وَعِيقاً الفرسُ: چلتے
وقت گھوڑے کے پیٹ سے آواز نکلنا۔ الــوُعاق و
الوَعِيق: چلتے وقت جانور کے پیٹ سے نکلنے والی آوا
ز، ہر چیز کی آواز۔

۳۔ وَعِقَ يَوعَقُ وَعَقَةً و تَوَعَّقَ و اسْتَوعَقَ: کمینہ
خلق ہونا صفت: وَعْق و وَعِق و وَعْقَة و وَعِقَة۔
وَعَّقَ هُ: کی مخالفت کرنا، کو روکنا، کو بدخوئی کی طرف
منسوب کرنا، کو بگاڑنا، کہا جاتا ہے: وَعَّقَهُ الطمعُ او
الجهلُ: اسے لالچ یا جہالت نے بگاڑ دیا۔ الوَعْقَة:
بدخوئی، طبیعت کی درشتی۔ کہا جاتا ہے: به وَعْقَةٌ: اس
کی طبیعت میں درشتی ہے، وہ بدخو ہے۔

ⓒ وَعْق و وَعِق: اکھڑ، بدمزاج، ترشرو، چڑچڑا، تندخو،
زود رنج، تنگ مزاج، جھگڑالو، جھکی، تکراری، الٹی
کھوپڑی کا۔

وعك: وَعَكَ يَعِكُ وَعْكاً وَ وَعْكَةً الحرُّ: گرمی کا
تیز ہونا۔ ــــ ته الحُمّیٰ: بخار کا کسی پر سخت ہونا
اور اسے تکلیف دینا۔ صفت مفعولی: مَوعُوك۔ ــــ
الرجلُ: سخت تکان یا بیماری سے دردمند ہونا۔ ــــ
وَعْكاً الشيءَ: کو توڑنا۔ ــ الشيءَ في التراب:
کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرانا۔ ــــ ت الإبلُ عند
الحوض: اونٹوں کا حوض پر ہجوم کرنا۔ اَوعَكَ الشيءَ
في التراب: کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرانا۔ ــــ ت
الابل عند الحوض: اونٹوں کا حوض پر ہجوم کرنا۔
تَــوَعَّكَ: بخار میں مبتلا ہونا۔ الــوَعْك (مص)
والوَعِك: بخار میں مبتلا۔ الوَعْكَة (مص): وعک
کا اسم مرۃ، ہوا کا رکنا اور گرمی کی تیزی، بیماری، میدان
جنگ، دوڑ میں بری طرح گرنا۔ وَعْكَةُ الحمیٰ:
بخار کی شدت۔ ــ الأمرِ: معاملہ کی سختی۔ ــ الإبلِ:
اونٹوں کے ریوڑ۔ المَوعُوك (مفع): بخار میں
مبتلا۔ بیمار۔

ⓒ تَــوَعَّكَ: علیل، ناساز طبیعت والا یا کچھ بیمار ہونا۔
الــوَعِك: کچھ بیمار، ناساز طبیعت والا۔ تَوَعُّك:
علالت، ناسازی طبیعت۔ موعوك: ناساز طبیعت
والا، کچھ بیمار، علیل، بیمار۔ مُتَوَعِّك: ناساز طبیعت
والا، کچھ بیمار، علیل، بیمار۔

وعل: ۱۔ وَعَلَ يَعِلُ وَعْلاً الوجلُ: اوپر سے جھانکنا۔
تَوَعَّلَ الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ اِستَوعَلَ تِ
الأَوعالُ: پہاڑی بکریوں کا پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھنا۔
الوَعْل جمع اَوعال و وُعُول: شریف۔ کہا جاتا
ہے: هم علينا وعلٌ واحدٌ: وہ سب دشمنی میں
ہمارے خلاف متحد و متفق ہیں۔ ــ والوَعِل و الوُعِل
جمع اَوعال و وُعُول و وُعُل و وَعِلَة و مَوعِلَة

الوَعِلَة جمع وَعِلات و وِعَال: پہاڑی بکرا۔ الوَعَل: پہاڑ کا دشوار گزار حصہ۔ ـــ من القميص: قمیص کا کاج۔ وَعِلَةُ الإبريق: لوٹے کا دستہ۔ المُسْتَوْعَل جمع مُسْتَوْعَلات: پہاڑ کی چوٹی پر پہاڑی بکری کی جائے پناہ۔

۲۔ اِسْتَوْعَلَ اليه: کے پاس پناہ لینا۔ الوَعْل جمع اَوْعَال و وُعُول: جائے پناہ۔ کہا جاتا ہے: مَالَكَ عنه وَعْل: تجھے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

وعم: وَعَمَ يَعِمُ وَعْماً الديارَ: قبیلہ کے خیموں کو "اِعْمِی" (اقبال مند ہو) کہہ کر خوش آمدید کہنا۔ عِمْ صباحاً: صبح بخیر۔ عِمْ مساءً: شام بخیر۔ ـــ بالخبر: کو خبر دینا۔ وَعِمَ يَعِمُ وَعْماً الديارَ: بمعنی وَعَمَ۔ الوُعْمة جمع وِعَام: پہاڑ میں نشان جو اس کے بقیہ رنگ کے مخالف ہو۔

وعن: ۱۔ تَوَعَّنَ الشيءَ: کو پورا لینا۔ ـــ ت الدابّةُ: جانور کا انتہائی موٹا ہونا۔

۲۔ الوَعْن جمع وِعَان: جائے پناہ۔ ـــ و الوَعْنة جمع وِعَان: سخت زمین، زمین کی وہ سفید جگہ جہاں کچھ نہ اُگے۔

وعى: وَعَى يَعِي وَعْياً الشيءَ: کو جمع کرنا، رکھنا، شامل کرنا۔ ـ الحديثَ: کو قبول کرنا، پر غور کرنا، کو یاد کرنا۔ ـــ ت الأذنُ: سننا۔ (عام لوگ کہتے ہیں: وَعِيَ فلانٌ: فلاں نیند یا غفلت سے بیدار ہوا)۔ ـــ القيحُ في الجرحِ: زخم میں پیپ جمع ہونا۔ ـــ الجرحُ: زخم کا پیپ بہانا۔ ـــ العظمُ: ہڈی کا ٹوٹنے کے بعد جڑنا۔ أَوْعَى إيعاءً الكلامَ او الشيءَ: کو یاد کرنا، جمع کرنا۔ ـــ الزادَ و نحوَهُ: خوراک وغیرہ برتن میں رکھنا۔ ـ الشيءَ: سب لے لینا۔ ـــ الرجلُ و عليه: سے بخل کرنا، کنجوسی کرنا۔ اِسْتَوْعَى الشيءَ: سب چیز لے لینا، کو جمع کرنا۔ الواعي: فا۔ وَاعِيُ اليتيم: یتیم کا سرپرست و محافظ۔ الواعِية: الواعی کا مونث۔ الوَعْي: پیپ: ظاہری عقل، ظاہری شعور۔ کہا جاتا ہے: مالي عنه وَعْيٌ: میرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ الوَعِيّ: محافظ، فقیہ۔ الوِعَاء و الوُعاء جمع اَوْعِيَة و جمع الجمع اَوَاعٍ: برتن۔ وعائيات البزور و مستورات البزور (ن): بادام کی طرح کی نباتات جن کا بیج خول کے اندر ہوتا ہے۔ بغیر خول کے نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے: هو اَوْعَى من فلان: وہ فلاں سے زیادہ یاد رکھنے اور سمجھنے والا ہے۔ هو اوعى من نملة: وہ چیونٹی سے زیادہ جمع کرنے والا ہے۔ اللاوَعْي: باطنی عقل یا شعور۔ مَوْعِيُّ الرسغ: مضبوط کلائی والا۔

۲۔ الواعية: آواز، چیخ، شور۔ الوَعْي و الوَعَى: شور وغل، آوازیں۔ فرس وَعَى: مضبوط گھوڑا۔

ج وَعَى يَعِي وَعْياً ه: کو رکھنا، پر مشتمل ہونا، پر محیط ہونا، کو شامل ہونا، کو یاد رکھنا، یاد کرنا، حفظ کرنا، جاننا۔ ـــ ه یا الی: پر توجہ کرنا، پر کان دھرنا، کو ذہن میں رکھنا، کو سننا، سمجھ لینا، دیکھ لینا۔ ـــ الی: سے آگاہ ہونا۔ وعى على نفسه: پر واضح ہونا۔ لايعي: وہ بے ہوش ہے۔ لا يكاد يعي: وہ تقریباً بے ہوش ہے۔ لايعي مايقول: وہ نہیں جانتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَعَّى ه من: کو سے خبردار کرنا۔ اَوْعَى ه: کو برتن وغیرہ میں رکھنا۔ تَوَعَّى: احتیاط سے کرنا، ہوشمندی سے کرنا۔ ـــ من: سے آگاہ ہونا، خبردار ہونا، سے چوکنا، چوکس یا ہوشیار ہونا۔ وَعْي: توجہ، دھیان، التفات، خبرداری، بیداری، چوکسی، ہوشیاری، فکرمندی، احتیاط، آگاہی، آگہی، شعور، واقفیت، احساس، سمجھ، خیال، چوکسی، چستی، ہوشیاری، مستعدی۔ في غير وَعْيٍ: بغیر دیکھے، دیکھے جانے کے بغیر۔ وعي قومي: قومی شعور، قوم پرستی، وطن پرستی، قومی آزادی کی تحریک سے ہمدردی۔ ماوراء الوعي: تحت الشعوری، نیم شعوری۔ استرجع وعيَهُ و عاد إلى وعيِه: ہوش میں آنا۔ فقد وعيه: بے ہوش ہونا، غش کھانا۔ دونَ وَعْي: نادانستہ، غیر ارادی طور پر۔ وِعَاء جمع اَوْعِيَة و اَوَاعٍ: برتن کوئی شے رکھنے کی چیز جیسے ڈبہ، بوتل وغیرہ، چیزدان، ظرف، جوف۔ اوعية دموية: خون کی رگیں یا نالیاں۔ واعٍ: متوجہ ہوشیار، محتاط، واقف، آگاہ، باخبر، اپنے حوش وحواس میں پوری طرح چوکنا یا بیدار۔

وغب: ۱۔ وَغُبَ يَوْغُبُ وَغَابَةً و وُغُوبَةً الجملُ: اونٹ کا ضخیم ہونا۔ الوَغْب جمع اَوْغاب و وِغَاب مونث وَغْبَة: موٹا اونٹ، ضخیم اونٹ۔

۲۔ الوَغْب جمع اَوْغاب و وِغَاب مونث وَغْبَة: ردی سامان، جسم کا کمزور، کمینہ، ذلیل۔ ـــ و الوَغَبَة: احمق۔

وغد: ۱۔ وَغَدَ يَغِدُ وَغْداً القومَ: قوم کی خدمت کرنا۔ وَغُدَ يَوْغُدُ وَغَادَةً: کمزور عقل والا ہونا، کمینہ ہونا۔ الوَغْد: تیر جس کا جوئے میں کوئی حصہ نہ ملے، شکار۔ ـــ جمع اَوْغاد و وُغْدان و وِغْدان مونث وَغْدَة: ضعیف العقل، احمق، کمینہ، بچہ، قوم کا خادم، غلام۔

۲۔ وَاغَدَ مُوَاغَدَةً ه: کے فعل جیسا فعل کرنا۔ ـــ فُلاناً في السير: سے چلنے میں مقابلہ کرنا اور اس پر غالب آنا۔

ج وَغْد جمع اَوْغَاد و وُغْدان: سخت غمزدہ، سخت بری حالت میں، مصیبت زدہ، بدبخت، گھٹیا، بدذات، بدمعاش، لچا، غنڈہ۔

وغر: ۱۔ وَغَرَ يَغِرُ وَغْراً اليومُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ ـ تْهُ الشمسُ: پر تیز دھوپ پڑنا۔ ـــ وَغْراً و وَغِرَ يَوْغَرُ وَغَراً صَدْرُهُ على فلان: پر غصہ سے گرم ہونا۔ صفت: وَاغِرُ الصدر عليه۔ وَغَّرَ تَوْغِيراً ه عليه: کو کسی سے کینہ پر اُکسانا۔ اَوْغَرَ ايغاراً ه: کو غضبناک کرنا۔ ـ صدرَهُ: کا غصہ سے سینہ بھڑکانا۔ ـ ه إلى كذا: کو پر مجبور کرنا۔ ـ الماءَ: پانی کو گرم کرنا۔ ـــ الخنزيرَ: خنزیر کو گرم پانی سے دھو کر ذبح کرنا۔ ـ القومُ: گرمی کے وقت میں آنا۔ ـ الملكُ لرجلٍ أرضاً و اَوْغَرَهُ اَرْضاً: بادشاہ کا کسی کو بغیر خراج کے زمین دینا۔ تَوَغَّرَ: غصہ سے بھڑکنا۔ الوَغْر و الوَغَر (مصدر): کینہ، دشمنی۔ وَغْرُ الجَيْشِ: فوج کا شور وغل۔ الوَغْرَة: اسم مرۃ، گرمی کی شدت۔ کہا جاتا ہے: لقيتُهُ في وغرة الهاجره: میں اس سے نصف النہار کے وقت ملا۔ الوَغِير: گرم ریت پر بھنا ہوا گوشت۔ ـــ و الوَغِيرَة: گرم پتھروں پر گرم کیا ہوا دودھ۔

۲۔ اَوْغَرَ ايغاراً القومُ بينهم مِيغَراً: انہوں نے باہم وقت مقرر کیا۔ المِيغَر: مقررہ وقت یا میعاد۔

ج وَغَرَ يَغِرُ و يَوْغَرُ وَغْراً و وَغَراً: گرم ہونا، غضبناک ہونا۔ ـــ صدرُهُ على: کے خلاف غصہ سے کھولنا، کے خلاف کینہ رکھنا، کے لئے نفرت محسوس کرنا۔ اَوْغَرَ صدرَهُ على: کے غصہ کو کسی کے خلاف ابھارنا، کو کے خلاف بھڑکانا، کے تلخ جذبات کو کسی کے خلاف برانگیختہ کرنا۔ تَوَغَّرَ: غضبناک ہونا، برہم ہونا، غصہ سے بھڑکنا۔ وَغْر و وَغَر: غصہ، ناراضی، غیظ و غضب، قہر، برہمی، خفگی، ناراضگی، بغض، عناد، کینہ، عداوت، حسد، بداندیشی، نفرت۔

وغف: ۱۔ وَغَفَ يَغِفُ وَغْفاً و وُغُوفاً الرجلُ: جلدی چلنا، دوڑنا۔ اَوْغَفَ إيغافاً الرجلُ: جلدی چلنا، دوڑنا۔ ـــ الكلبُ: کتے کا زبان نکالنا۔ ـــ الطائرُ: پرندہ کا جلدی جلدی پر پھڑپھڑانا۔

۲۔ وَغَفَ يَغِفُ وَغْفاً و وُغُوفاً البصرُ: نظر کا کمزور ہونا۔ اَوْغَفَ إيغافاً الرجلُ: کی نظر کمزور ہونا۔

۳۔ اَوْغَفَ إيغافاً الرجلُ: بقدر کفایت کھانا کھانا۔

وغل: وَغَلَ يَغِلُ وُغُولاً دور چلا جانا۔ ـ في الشيءِ چیز میں گھس کر چھپ جانا۔ ـــ وَغْلاً و وغولاً و وَغَلاناً على القوم بغیر بلائے دعوت میں آنا۔ اَوْغَلَ اِيْغالاً فلاناً في كذا: کسی کو کسی چیز وغیرہ میں داخل کرنا۔ ـ في السير جلدی چلنا۔ ـ في البلاد ملک میں دور تک چلے جانا۔ ـ في العلم و نحوہ علم وغیرہ میں پوری پوری جدو جہد کرنا۔ ـــ لـــ ہ دشمن کے ملک میں یا پہاڑوں کے درمیان میں گھس کر دور تک چلے جانا۔ توَغَّلَ في البلاد ملک میں دور تک چلے جانا۔ الوَغْل (مص) جمع اَوْغال: کمزور، فرومایہ، کوتاہی کرنے والا، بغیر بلائے کھانے پینے پر آموجود ہونا، گنجان درخت، جائے پناہ، ایک قسم کا دانہ جو کبوتر کھاتے ہیں۔ ـ والوَغِل جھوٹے نسب کا دعویٰ کرنے والا، بدخوراک۔ المِوْغال بہت تعریف کرنے والا، بہت قیمت مانگنے والا۔ المَوْغِل (فا) جلدی داخل ہونے والا۔

⊂ وَغَلَ يغِلُ وُغولاً في: میں گھس کر یا داخل ہوکر دور تک چلے جانا۔ ـ وَغْلاً و وَغلاناً على: کے سر پر زبردستی جا مسلط ہونا، کے پاس بن بلائے چلے جانا۔ اَوْغَلَ في: میں گھس کر دور تک چلے جانا، کسی سرگرمی میں تن دہی سے کام کرنا۔ ـ ہ في کو میں دھکیلنا۔ ـ: جلدی کرنا۔ اَوْغَلَ في السير: تیز تیز چلنا، جلدی سے آگے بڑھنا۔ اَوْغَلَ في الكلام: میں مبالغہ کرنا، مبالغہ آمیزی کرنا، کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ تَوَغَّلَ في: میں گھس کر دور تک چلے جانا، آگے اور آگے بڑھ جانا۔ وَغْل: مداخلت کرنے والا، ناخواندہ مہمان طفیلی۔ تَوَغُّل: داخل ہونا، جذب، گہری سوچ، فکر۔ وَاغِل: مداخلت کرنے والا، طفیلی، غیر متعلق، گہرا، گہری بنیاد والا، گھر کر چکنے والا، سخت، راسخ (احساس)۔ مُتَوَغِّل: گہری بنیاد رکھنے والا، گہرائی تک پہنچنے والا۔

وغم: ۱۔ وَغَمَ يَغِمُ وَغْماً ہٗ: پر غالب آنا۔ وَغِمَ يَوْغَمُ وَغَماً عليه: سے کینہ رکھنا۔ اَوْغَمَ ہٗ: کو کینہ ور بنانا۔ توَغَّمَ عليه: پر غضبناک ہونا۔ ـ و تَوَاغَمَ الابطالُ في الحرب: بہادروں کا جنگ میں باہم سخت قتال کرنا، بعض کے نزدیک ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھنا، شک وشبہ کی نظر سے دیکھنا۔ الوَغْم (مص) جمع اَوْغام: سینے میں قائم شدہ کینہ، جنگ وقتال، نس۔ ـــ رجلٌ وَغِمٌ: کینہ ور آدمی۔

۲۔ وَغَمَ يَغِمُ وَغْماً بالخبر: بغیر تحقیق کے خبر بیان کرنا۔ ـ إلى الشيء کا وہم کرنا۔

۳۔ الوَغْم جمع اَوْغام گرا ہوا کھانا، احمق۔

وغن: تَوَغَّنَ تَوَغُّناً جنگ میں پیش قدمی کرنا۔ ـ على المَعَاصِي: گناہوں پر اصرار کرنا۔

وغی: الوَغَى والوَغْي: آواز، شور، جنگ۔

⊂ وَغًى و وَغًى: غل، شور وغل، غوغا، شور وغوغا، غل غپاڑہ، پرشور مطالبہ یا احتجاج، ہنگامہ، کہرام، گڑبڑ۔

وفد: ۱۔ وَفَدَ يَفِدُ وَفْدًا و وُفُودًا و وِفَادَةً و اِفادَةً اِلى او على الامير حاکم کے پاس وفد بن کر یا قاصد بن کر آنا صفت: وَافِد جمع وَفْدٌ و وُفُودٌ و وُفَّاد و وُفَّد و اَوْفادٌ۔ وَفَدَ فلاناً اِلى او على الأمير: کو حاکم کے پاس قاصد بنا کر بھیجنا۔ وَافَدَ فلاناً على الامير کے ساتھ حاکم پاس آنا۔ اَوْفَدَ اِيفادًا: بلند ہونا۔ ـ عليه کو اوپر سے جھانکنا۔ ـ الريمُ ہرن کا کان وسر کھڑا کرنا۔ ـــ فلاناً الى او على الامير: کو حاکم کے پاس بھیجنا۔ ـ الرجلُ جلدی کرنا۔ تَوَفَّدَتِ الابلُ او الطيرُ: اونٹوں یا پرندوں کا ایک دوسرے سے آگے نکل جانا۔ ـ عليه کو اوپر سے جھانکنا۔ تَوَافَدَ القومُ عليه: کے پاس لوگوں کا اکٹھے وارد ہونا۔ اِسْتَوْفَدَہٗ کو وفد بنا کر بھیجنا۔ الوَافِد (فا): رخسار کا وہ حصہ جو کھانا چباتے وقت اونچا ہوجاتا ہے۔ یہ دو رخساروں کے حصے ہیں۔ ـــ من الابل و نحوها: سب سے آگے چلنے والا اونٹ وغیرہ۔ الوَفْد (مص) جمع وُفُود: وفد یعنی آدمیوں کی جماعت جو ملک میں وارد ہو، حاکم کے پاس آنے والا وفد۔ ـــ جمع وُفُود و اَوْفاد: لمبے ٹیلے کی چوٹی۔ الوَفّاد: بہت وفد والا۔

۲۔ اِسْتَوْفَدَ في قِعدَته: غیر مطمئن بیٹھنا۔ (استوفز کے معنی میں آتا ہے)۔

⊂ وَفَدَ يَفِدُ وَفْداً و وُفُودٌ و وِفادَةً الى يا على: کے پاس بطور قاصد، ایلچی، سفارتی نمائندہ آنا، کے سامنے آنا، کی موجودگی میں آنا۔ ـــ على: کو ملنا، کو ملنے آنا، کی ملاقات کو جانا۔ وَفَّدَ و اَوْفَدَ ہ اِلى يا على: کو کے پاس بھیجنا۔ ـــ (ہ) اِلى يا على: کے پاس (وفد) بھیجنا۔ ـ ہ الى يا على: کو کے پاس نائب یا نمائندہ بنا کر بھیجنا، کو کے پاس (یا میں جیسے کانفرنس میں) قائم مقام، نمائندہ یا وکیل بنا کر بھیجنا۔ ـ ہ اِلى يا على: جماعت کو نمائندہ بنا کر کسی کے پاس یا کسی جگہ بھیجنا۔ وَافَدَہٗ: کے ساتھ آنا یا پہنچنا۔ تَوَافَدَ: اکٹھے آنا پہنچنا۔ ـــ على: کو گھیر لینا، کی طرف مل کر چلنا۔ وُفُود: آنا، آمد۔ ـــ جمع وُفُود و اَوْفاد: مندوبین یا نمائندوں کی جماعت یا وفد، نمائندگان، وفد۔ الوفد (مصر کی سابق) وفد پارٹی۔ وَفْدِي: وفد کا یا وفد سے متعلق، وفدی یعنی وفد پارٹی کا رکن یا حامی، حمایتی، وابستہ یا پیرو۔ وِفادة: آمد۔ أَكْرَمَ يا اَحْسَنَ وِفادتهٗ: کا مہمان نوازی سے استقبال کرنا، کا نوازش سے استقبال کرنا، سے ادب کے ساتھ پیش آنا۔ وُفُود: آمد۔ اِيفاد: بھیجنا۔ وَافِد جمع وُفُود و اَوْفاد و وُفّاد: آنے والا، نو وارد، آمد، ایلچی، نمائندہ، سفارتی نمائندہ، وبائی (مرض)، آنے والے خیالات وغیرہ)۔ وافِدة: وبا۔ مُوْفَد: کسی خاص کام کے لئے مقرر کیا ہوا یا نامزد، مندوب، نمائندہ۔ الموفد البابوي: داعیانہ نمائندہ۔

وفر: وَفَرَ يَفِرُ وَفْراً و فِرَةً لهُ المالَ: کے مال و دولت کو بڑھانا، پورا کرنا۔ ـ الثوبَ: کپڑے کو فراخ قطع کرنا۔ ـــ عرضَ فلان: کی عزت کی حفاظت کرنا، اور اسے گالی نہ دینا۔ کہا جاتا ہے: وَفَرْتُهُ عِرضَهُ: میں نے اس کی تعریف کی اور اس کی عیب جوئی نہیں کی۔ ـ عطاءَكَ: (تیری عطاء) کو رضامندی سے واپس کر دینا یا کم جان کر واپس کر دینا۔ ـــ وَفْراً و وُفُوراً و فِرَةً و وَفُرَ يَوْفُرُ وَفَارَةً المالُ او المتاعُ: مال یا سامان زیادہ اور وسیع ہونا۔ وَفَّرَ تَوْفِيراً الشيءَ: چیز کو زیادہ کرنا۔ ـــ لفلان طعامَهُ: کے لئے خوراک مکمل کرنا۔ ـ اللهُ حَظَّهٗ من كذا: اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے کسی کا حصہ کامل کرنا۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کو فراخ قطع کرنا۔ ـــ لفلانٍ عِرضَهُ: کی عزت کی حفاظت کرنا، کو گالی نہ دینا۔ ـــ المالَ: مال کم نہ کرنا۔ ـــ حِصَّةً من المال: مال کا حصہ باقی رکھنا۔ ـ الرجلُ: اسراف نہ کرنا (عام زبان میں)۔ ـ في النفقة: خرچ میں کنجوسی کرنا (عام زبان میں)۔ اَوْفَرَ فلانٌ الشيءَ: چیز کو زیادہ کرنا، پورا کرنا۔ تَوَفَّرَ على كذا: پر اپنی ہمت صرف کرنا۔ ـ على صاحبه: اپنے ساتھی کی عزت و حرمت کا لحاظ رکھنا۔ تَوَافَرَ و اتَّفَرَ الشيءُ: زیادہ اور فراخ ہونا۔ اِسْتَوْفَرَ الشيءَ: چیز کو پورا کرنا۔ ـ الحقَّ: حق پورا لے لینا۔ الوَافِر (فا): علم عروض کی ایک بحر (مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ)۔ الوَافِرة: الوافر کا مؤنث: دنبہ کی بڑی چکدی۔ الوَفْر (مصدر) جمع وُفُور: دولت مندی۔ ـــ من المال او المتاع: بہت، وسیع مال و متاع یا عام چیز۔ الوَفْرَة جمع وِفار: اسم مرۃ، کثرت، بہتات، کانوں تک لمبے بال۔

الأَوْفَر: کامل، تام۔ الوَفْرَاء: بھرا ہوا۔ مزادۃٌ
وَفْرَاءُ: پوری کھال۔ اُذُنٌ وَفْرَاء: بڑا کان۔
ارضٌ وَفْرَاء: بہت گھاس والی زمین۔ قومٌ
مُتَوَافِرُون: بہت لوگ۔ المُوَفَّر (مفع) المُوَفَّرُ
الشَّعَرِ: لمبے اور بہت بالوں والا۔ کہا جاتا ہے: تَرَكْتُهُ
علی أحسنِ مُوَفَّرٍ: میں نے اس کو بہت اچھی
حالت میں چھوڑا۔ المَوْفُور (مفع): مکمل چیز۔
ض وَفَرَ يَفِرُ وَفْراً وَ وُفُوراً وَ وَفُرَ يَوْفُرُ وَفَارَةً:
بھرپور ہونا، کی بہتات، کثرت یا افراط ہونا، بڑی تعداد
میں ہونا، کثرت سے ہونا، کافی ہونا، بہت ہونا، فراخ
ہونا، کشادہ ہونا، وافر ہونا، فراواں ہونا، کثیر ہونا، متعدد
ہونا، وافر ہونا، بڑھنا، اضافہ ہونا، بڑا ہونا، اور زیادہ
ہونا۔ وَفَرَ ہ: کو بڑھانا، کو وافر کرنا، فراواں کرنا، کو
بہت کرنا، زیادہ کرنا۔ ۔۔۔ ہ ل: کسی چیز کا بہت یا کافی
حصہ کسی کو دینا۔ ۔۔۔ ہ: (ثبوت، شہادت) مہیا کرنا، کو
بچانا، محفوظ کرنا، پس انداز کرنا، سنبھال کر رکھنا، میں
کفایت شعار ہونا، میں کفایت سے کام لینا، کو روک کے
رکھنا، (روپیہ وغیرہ) کو برے یا آڑے وقت کے لئے
یا ضرورت کے لئے بچانا۔ ۔۔۔ علی ہ: کو سے بچانا،
نجات دلانا۔ وَفَّرَ علیه مصاریف کثیرۃ: کو
بہت سے اخراجات سے بچانا۔ اَوْفَرَ ہ: کو بڑھانا،
زیادہ کرنا۔ تَوَفَّرَ: بھرپور ہونا، کی بہتات، کثرت یا
افراط ہونا، بڑی تعداد میں ہونا، کثرت سے ہونا، کافی
ہونا، (شرط کا) پورا ہونا، پوری قیمت کا ہونا، کھرا،
خالص، معیاری ہونا، بے عیب ہونا، معقول ہونا،
قانونی ہونا، کامیاب ہونا، فروغ پانا، پنپنا، پھلنا،
پھولنا، بچ رہنا۔ ۔۔۔ علی: کسی سرگرمی وغیرہ میں کسی
تکلیف، زحمت، پریشانی وغیرہ سے دریغ نہ کرنا، ہر
طرح کی کوشش کرنا، کو پوری توجہ دینا، اپنے آپ کو کے
لئے وقف کرنا، سارا وقت کسی سرگرمی میں لگا دینا، یا
کسی سرگرمی کی نذر کر دینا۔ تَوَفَّرَتْ فیه الصفاتُ
اللازمة: ضروری خوبیاں رکھنا۔ تَوَفَّرت فیه
الشروطُ: وہ شرائط پوری کرتا ہے۔ تَوَافَرَ: بہت
ہونا، متعدد ہونا، بھرپور ہونا، بڑی تعداد میں ہونا،
کثرت سے ہونا، فراواں ہونا، وافر ہونا، زیادہ ہونا،
کثیر ہونا، تعداد میں بڑھنا، بڑھنا، (شرط کا) پورا ہونا۔
۔۔۔ ل: (خوبیوں وغیرہ کا) بکثرت کسی کے حصہ میں آنا۔
تَوَافَرَ فیه الشبابُ و الجمالُ: وہ حسن و جمال
سے بھرپور آراستہ ہے۔ اسے قدرت کی طرف سے
حسن و جمال کی خوبی بڑی فراخی سے عطا ہوئی ہے۔
کثرت، بہتات، افراط، دولت۔ جمع وُفُور و
وفرات: بہتات، فراوانی، زیادتی، بیشی، بچت، فاضل
مقدار، ضرورت سے زیادہ چیز، باقی، کفایت، جمع جتھا،
اندوختہ۔ وَفْرَۃ: فراوانی، کثرت، افراط، وفور، بہتات۔
وَفِیر: وافر، فراواں، کثیر، بہت کافی، فراخ، کشادہ۔
اَوْفَرُ ہ: میں زیادہ بہتات والا، میں بہت کثرت
سے یا بڑی تعداد میں پایا جانے والا، سے بہت زیادہ
ہوا، عطا کیا ہوا، آراستہ کیا ہوا۔ ۔۔۔ زیادہ کفایت
شعار، زیادہ کم خرچ۔ اَوْفَرُ حظاً: زیادہ خوش قسمت،
زیادہ خوش نصیب۔ توفیر: کثرت، اضافہ، بہتات
افراط، اضافہ، اضافہ کرنا، بلندی، اونچائی، کفایت
شعاری کرنا، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، بچت،
کفایت، صندوقُ التوفیر: سیونگز بنک۔ تَوَفُّر:
بہتات، کثرت، دولت، زیادتی، اضافہ، پھیلاؤ،
تکمیل، تعمیل۔ عند تَوَفُّرِ الشروط: شرائط پوری
کرنے کے فوراً بعد۔ وَافِر: بہت، فراواں، بکثرت،
بہتات میں، بڑی متعدد، وافر، کثیر، فراخدلانہ۔
مَوْفُور: بہت، فراواں، وافر، کثیر، لدا ہوا، شرابور،
ناک میں دم کیا ہوا، دولت مند، امیر، روپیہ پیسہ والا،
کامل، مکمل، بالکل صحیح سالم، بالکل محفوظ۔ موفورُ
المطالب: بہت سی خواہشوں کا حامل۔ مُتَوَفِّر:
بہت، فراواں، وافر، بہتات سے، باافراط، کفایت
شعار، کم خرچ، بچت، نفع، سود۔ مُتَوَافِر: بہت، کثیر،
فراواں وافر، باافراط، فراخ دلانہ۔

وفز: وَافَزَہٗ: کے پیچھے دوڑنا، کو جالینا، جا پکڑنا۔ اَوْفَزَ ایفازاً
ہٗ: کو جلدی کرانا۔ تَوَفَّزَ للامر: کام کے لئے تیار
ہونا۔ کہا جاتا ہے: أَخَذَ يَتَوَفَّزُ علی فراشه:
بستر پر کروٹیں بدلنے لگا، نیند نہ آنا۔ اِسْتَوْفَزَ اِسْتِیفازاً
فی قعدته: اس طرح بیٹھنا کہ فوراً اٹھ سکے، بے چینی
سے بیٹھنا گویا اٹھنے کو تیار ہو۔ الوَفْز و الوَفَز جمع
أَوْفَاز و وِفَاز: جلدی، عجلت۔ کہا جاتا ہے: نحن
علی وَفْزٍ او وِفازٍ او اَوْفاز: ہم روانہ ہونے کے
لئے تیار ہیں، یا بہت جلدی میں ہیں۔ مکانٌ وَفْزٌ:
بلند جگہ۔
ت تَوَفَّزَ: ہوشیار کیا جانا۔ اِسْتَوْفَزَ: گھات میں بیٹھنا،
پریشانی، تشویش یا امید و بیم کی حالت میں ہونا، تیار
ہونا، چوکس ہونا۔ مُسْتَوْفِز: چوکس، چوکنا، ہوشیار،
مستعد، صاف، واضح، تیز (ذہن) برانگیختہ، مشتعل،
جوش میں، گھبرایا ہوا، پرجوش۔ کان علی اوفاز: کمر
بستہ ہونا، چوکنا ہونا، چوکس ہونا۔

وفض: ا۔ وَفَضَ يَفِضُ وَفْضاً و وَفَضاً و اَوْفَضَ
ایفاضاً: تیز چلنا، دوڑنا۔ اِسْتَوْفَضَ اِسْتِیفاضاً:
تیز چلنا، دوڑنا۔ ۔۔۔ ہٗ: سے جلدی کرانا۔ الوَفْض و
الوَفَض (مص): جمع اَوْفاض: جلدی، عجلت۔
الوَفْضة جمع وِفاض: اسم مرہ۔
۲۔ اَوْفَضَ اِیفاضاً ہٗ: کو دھتکارنا۔ ۔۔۔ الإبلَ: اونٹوں کو
جدا جدا کرنا۔ اِسْتَوْفَضَ اِسْتِیفاضاً تِ الإبلُ:
اونٹوں کا بکھرنا۔ ۔۔۔ ہٗ: کو دھتکارنا، جلاوطن کرنا۔
الأَوْفَاض: لوگوں کی مختلف جماعتیں۔
۳۔ اَوْفَضَ اِیفاضاً للرجلِ: کے بیٹھنے کیلئے فرش بچھانا۔
الوفاض جمع وُفُض: چکی کے نیچے رکھنے کا چمڑہ،
پانی روکنے کی جگہ۔ الوَفْضة جمع وِفاض: چمڑے
کا ترکش، گڈریے کا تھیلا، اوپر کے ہونٹ پر مونچھوں
کے درمیان کا گڑھا۔
ض وَفَضَ يَفِضُ وَفْضاً: دوڑنا، جلدی کرنا، جلدی چلنا۔
وَفْضَة جمع وِفاض: چمڑے کا تھیلا، سفری تھیلا۔
خالی الوِفاض: خالی، خالی ہاتھ، فارغ۔

وفع: الوَفْع جمع اَوْفاع: بلند عمارت یا جگہ۔ غلامٌ
وَفَعٌ جمع وِفْعان و وَفَعَة و أَفَعَة: نوجوان لڑکا۔
الوَفْعَة: کھجور کے پتوں کی ٹوکری۔ ۔۔۔ و الوِفاع:
شیشی کا ڈاٹ۔ الوَفِیعَة: بمعنی الوَفْعَة: قلم
صاف کرنے کا چیتھڑا۔

وفق: وَفِقَ يَفِقُ وَفْقاً الأمرَ: کو موافق پانا۔ ۔۔۔ الأمرُ:
مراد کے موافق ہونا۔ وَفَّقَ الامرَ: کو موافق بنانا۔ ۔۔۔
بین القوم: قوم کے درمیان اصلاح کرنا۔ ۔۔۔ ہٗ
اللّٰہُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو درست کرنا۔ ۔۔۔ ہٗ اللّٰہُ
للخیر: اللہ تعالیٰ کا کسی کو خیر کا الہام کرنا۔ وُفِّقت له:
وہ مجھ سے ملا۔ وَافَقَ وِفاقاً و مُوَافَقَۃً ہٗ: کو ملنا، کو
پانا۔ ۔۔۔ ہٗ فی او علی الشیء: کسی بات وغیرہ میں
کسی سے موافق ہونا۔ ۔۔۔ بین الشیئین: دو چیزوں
کو جوڑنا۔ اَوْفَقَ القومُ لهٗ: کے قریب ہونا، پر اتفاق
کرنا، (کہا جاتا ہے: اُوفِقَ لزیدٍ لِقاؤُنا: ہماری
زید سے ملاقات اچانک اور اتفاقیہ تھی، زید ہمیں
اچانک اور اتفاقاً ملا)۔ ۔۔۔ السهمَ و بالسهم: تیر
چلانے کے لئے فوق کو تانت پر رکھنا (گویا یہ افوق کا
الٹ ہے)۔ تَوَفَّقَ: کی کوشش بارآور ہونا، اللہ تعالیٰ
سے توفیق و مدد پانا۔ (کہا جاتا ہے: لا يَتَوَفَّقُ عبدٌ
الا بتوفیق اللّٰه: کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر
کامیابی حاصل نہیں کرتا)۔ تَوَافَقَ القومُ فی
الأمر: پر اتفاق کرنا، ایک دوسرے کے قریب ہونا،
ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اِتَّفَقَ الرجلان علی
الشیء و فیه: پر اتفاق کرنا، باہم قریب ہونا، متحد
ہونا۔ ۔۔۔ معَهٗ: سے موافقت کرنا۔ ۔۔۔ الأمرُ: اتفاقیہ

طور پر واقع ہونا۔ اِسْتَوْفَقَ اِسْتِيفَاقاً اللّٰهَ: اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہنا۔ الوُفْق (مص) دو چیزوں کے درمیان مطابقت، بقدر کفایت۔ (کہا جاتا ہے: كَسْبُهُ وُفْقُ عِيَالِهِ: اس کی کمائی اس کے اہل وعیال کیلئے کافی ہے۔ جَاءَ القومُ وُفْقاً لوگ اتفاق سے آئے۔ اتيتُهُ وُفْقَ طلعِ الشمسُ میں اس کے پاس طلوع آفتاب کے وقت آیا)۔ الوَفِيق: رفیق۔ التَوفيق (مص)۔ توفيقُ الهلال و توافقه و تِيفاقُهُ و تَوَفُّقُهُ و تِيفَاقَةُ و تَيْفَاقَةُ و مِيفَاقَةُ: نئے چاند کا پہلا ظہور۔ المُوَفَّق (مفع) کہا جاتا ہے: اِنَّ فلاناً مُوَفَّقٌ: فلاں نیک آدمی ہے۔ سچائی کے راستہ پر ہے۔

۲۔ وَفِقَ يَفِقُ وَفْقاً صحیح ہونا، مناسب ہونا، موزوں ہونا، فٹ ہونا، برمحل ہونا، ٹھیک ہونا۔ وَفَّقَ ہ کو ٹھیک بنانا، موزوں بنانا، مناسب بنانا، کو مطابق کرنا، موافق کرنا، اہل بنانا، کو ترتیب دینا، ٹھیک ٹھاک کرنا۔ — بین: مختلف چیزوں کو موافق بنانا، ہم آہنگ بنانا، دو چیزوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔ — بین - و بین: میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔ — بین: دو فریقوں میں مصالحت کرانا، دوبارہ عام تعلقات قائم کرنا، صلح کرانا، جھگڑا چکانا۔ — ہ ل یا اِلی: اللہ تعالیٰ کا کسی کو کسی چیز کے حصول میں کامیابی عطا کرنا۔ وُفِّقَ الی یا لِ: سے یا میں کامیابی حاصل کرنا، کامیاب ہونا۔ — اِلی: میں خوش قسمت ہونا، میں کامیاب ہونا۔ وُفِّقَ كُلَّ التوفيق اِلی: میں مکمل طور پر کامیاب ہونا، ہر کامیابی حاصل کرنا۔ وَافَقَ ہ: کیلئے موزوں ہونا، کو زیب دینا، موزوں ہونا، سجنا، پھبنا، کی ضرورتوں کے لئے کافی ہونا، کے شایان شان ہونا، کے لئے قابل قبول ہونا، کو پسند کرنا، ماننا، کے لئے ساز گار ہونا، موافق اور مناسب حال ہونا، کی خواہشوں یا مفادات سے ہم آہنگ وموافق ہونا، (لباس کا) کسی کو پھبنا، سجنا، فٹ ہونا۔ — ہ یا ہ فی یا علی: سے میں اتفاق کرنا، متفق ہونا۔ — ہ علی یا فی: سے میں متفق ہونا، یکدل یک آواز یا ہم رائے ہونا۔ — ہ: کو لگانا، جڑنا، سے موافق یا ہم آہنگ ہونا، کے مطابق ہونا، کا جوڑا ہونا، کے برابر ہونا، کے مشابہ ہونا (خوراک آب وہوا کا) کو راس آنا، موافق آنا، کے لئے خوشگوار ہونا، صحت بخش ہونا، منفعت بخش ہونا، کا باعث ہونا۔ — علی: سے متفق ہونا، کو مان لینا، کو ہاں کہہ دینا، کی تائید کرنا، پر صادر کرنا، کو منظور کرنا، کی منظوری دینا، کی تصدیق کرنا، توثیق کرنا، کی اجازت دینا، کا اختیار دینا، کا لائسنس

دینا۔ — بین: ایک چیز کو دوسری کے مطابق بنانا، بدلنا، دو چیزوں کو ہم پلہ کرنا، ہم وزن کرنا، ملتا جلتا بنانا، میں توافق پیدا کرنا، میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔ تَوَفَّقَ: اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پا جانا، کامیاب ہونا۔ اِتَّفَقَ: متفق ہونا، اتفاق کرنا، یکدل ہونا، یک آواز ہونا۔ — مع یا و: سے اتفاق کرنا، متفق ہونا، ہم آہنگ ہونا، کے مطابق ہونا، سے موافق ہونا۔ — علی: پر اتفاق کرنا، کا انتظام کرنا۔ — علی مع: کے بارے میں کسی کے ساتھ سمجھوتہ کرنا۔ — ل: کو اتفاقیہ پیش آنا، کو (غلطی یا فروگذاشت وغیرہ) کرنے کا اتفاق ہونا، عمل میں ہونا، واقع ہونا، پیش آنا، غیر متوقع طور پر واقع ہونا، کا عادی ہونا، کے لئے مقدر ہو چکنا۔ كما اتفق: یونہی، بے سوچے سمجھے، اتفاق سے، بے پروائی سے۔ كَيْفَمَا اتفق: جو ہو، کیا ہی آخر کار ہو، کیسے ہی کیوں نہ ہو، بہر حال، کسی نہ کسی طرح، بہر صورت، تاہم، پھر بھی، ہر صورت میں۔ وَفْق: کافی رقم، کافی مقدار، اتفاق، مطابقت، موافقت، مناسبت، تعمیل، ہم آہنگی، اتحاد۔ وَفْقَ یا وَفْقاً لِ یا مِن وفقِ: کے مطابق، کی تعمیل میں، کے ہم مقدار، کے حسب حال، کے مناسب، کے اتباع میں، کی تقلید میں، کی بنیاد پر، کے باعث، کی سند سے۔ وفقَ الأصل: صحیح (نقل)۔ اجر بالوَفْقَةِ کام کے مطابق مزدوری۔ اَوْفَق: زیادہ موزوں، مناسب، زیادہ صحیح، زیادہ ٹھیک، زیادہ برجستہ، زیادہ برمحل۔ توفيق ڈھانچہ، بناوٹ، ساخت، مطابقت، مناسبت، موافقت، تصرف، گنجائش، موازنہ کرنا، ہم آہنگی، ترتیب، تصفیہ، صلح، مصالحت، ثالثی، مصالحت کی کوشش، تحکیم، صلح کرانا، جھگڑا چکانا، معمول کے تعلقات، کو دوبارہ قائم کرنا (اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ) کامیابی، اچھا نتیجہ، خوش نصیبی، اقبال مندی، بہرہ مندی، کامیابی۔ لَجْنَةُ التوفيق: ثالثی کونسل مجلس تحکیم۔ وِفَاق: مناسبت، موافقت، مطابقت، میل، مشابہت، اتحاد، ہم آہنگی، اتفاق، اجازت، منظوری، رضامندی، معاہدہ، اقرار، عہد، عہد نامہ۔ وفاقاً لِ: کے مطابق، کی خواہش کے مطابق، حسب خواہش، کی بنیاد پر، کی سند سے، پسند، کے باعث، کی اتباع میں، کی تقلید میں۔ مُوَافَقَة: اتفاق، موافقت، مطابقت، تعمیل، پیروی، لگاؤ، ربط وضبط، تناسب، نسبت، ایک جیسا ہونا، موزونیت، مناسبت، درستی، قابلیت، صلاحیت، منظوری، رضامندی، پسندیدگی، خوشنودی، جواز، اجازت، حکم۔ تَوَافُق: اتفاق، مطابقت، بیک وقت

وقوع، زمانی مطابقت، التزام، موزونیت، موافقت، میل ملاپ، رضامندی، سمجھوتہ، مفاہمت، اقرار نامہ، راضی نامہ، ہم خیالی، اتفاق رائے، ہم آہنگی، تال میل، مطابقت، مشابہت۔ اِتِّفَاق: اتفاقی مطابقت، زمانی مطابقت، بیک وقت وقوع التزام، موزونیت، موافقت، اتفاق، میل، موافقت، مطابقت، مشابہت، رضامندی، سمجھوتہ، مفاہمت، جمع اتفاقات: معاہدہ، عہد و پیمان، قول وقرار، قرارداد، ٹھیکہ، ٹھیکے کا معاہدہ، اتفاق رائے، سمجھوتہ، سلطنتوں کی دوستی۔ اتفاقاً: اتفاقاً، اتفاق سے، اچانک، غیر ارادی طور پر، اتفاقیہ طور پر۔ بالاتفاق: (باہمی) اتفاق سے، ہم آہنگی سے، قول وقرار کے مطابق۔ اتفاقُ الآراء: کامل اتفاق رائے۔ باتفاق الآراء: کامل اتفاق رائے سے۔ اتفاقُ عدمِ الاعتداء عدم جارحیت کا معاہدہ۔ دولُ الاتفاقِ الصغير چھوٹی سلطنتوں کی دوستی کے ممالک۔ اِتِّفَاقِي اتفاقی، ناگہانی، غیر ارادی، نامتوقع، رواجی، رسمی تقلیدی، رواج پر مبنی۔ اِتِّفَاقِيَة جمع اِتِّفَاقِيَات: معاہدہ، تراضی۔ مُوَفَّق کامیاب، خوش قسمت، اقبال مند۔ مُوَافِق: ہم ساز، ہم نوا، ہم آواز، موزوں، مطابق، مشابہ، موافق، مناسب، ٹھیک، یک رنگ، ملتا جلتا، یکساں رو، ہم آہنگ، ہم رنگ، ہم راگ، اتنا ہی، مماثل، متساوی، خوش اطوار، خوشگوار، دلپذیر، سہانا، قابل قبول، آسان، مفید، معقول، آرام دہ، طرفدار، مہربان، فائدہ مند، مفید مطلب، امید افزا، پسندیدہ، ساز گار، سعید، مبارک، مسعود، باعث، ممد، مائل۔ مُتَوَفِّق: کامیاب، اقبال مند، خوش قسمت۔ مُتَّفَق عليه: جس پر اتفاق کیا گیا ہو۔

وفل: ۱۔ وَفَلَ يَفِلُ وَفْلاً و وَفَّلَ توفيلاً الشيءَ: کو چھیلنا۔ الوَفْل (مص) تھوڑی چیز۔
۲۔ وَفَّلَ توفيلا الشيَ: کو پس انداز کرنا۔

وفه: وَفَهَ يَفِهُ وَفْهاً النصرانيُّ: گرجے کا ناظم ہونا۔ الوافِه: گرجے کا ناظم، ثالث۔ الوفاهَة: گرجے کے ناظم کی تنخواہ یا اس کا فریضہ۔ الوَفْهِيَّة: گرجے کے ناظم کا رتبہ۔

وفی: ۱۔ وَفَى يفي وَفَاءً بالوعد او العهد: وعدہ یا عہد پورا کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ — النذرَ: نذر پوری کرنا۔ — الشيءُ: دراز ہونا۔ (مات فلانٌ و انت بِوفاءٍ: فلاں شخص مرگیا جب کہ تیری عمر لمبی ہو)۔ — ريشُ الجناح: بازوؤں کے پروں کا پورا ہونا۔ — وُفِيًّا الشيءُ: کامل ہونا، بہت ہونا۔ — الدرهمُ

المثقالَ: درہم کا مثقال کے برابر ہونا، ہم وزن ہونا۔ کہا جاتا ہے: هذا الشيءُ لايفي بذاك: یہ چیز اس کے برابر نہیں۔ وَفّٰى توفِيَةً الرجُلَ حَقَّهُ: کو حق پورا دینا۔ وَافٰى مُوَافاةً فلاناً حقَّهُ: کو حق پورا دینا۔ ـ الرجُلَ: کے پاس آنا، کے پاس یک بیک آنا۔ ـ ہ الحِمَامُ او الكتابُ: کو موت آجانا، یا کے پاس خط آنا۔ اَوْفٰى ایفاءً بالوعد: وعدہ پورا کرنا۔ ـ النذرَ: نذر پوری کرنا۔ ـ الكيلَ: پیمانہ پورا ناپنا۔ ـ فلاناً حقَّهُ: کو حق پورا دینا۔ ـ المكانَ: جگہ میں آنا۔ توَفّٰى توَفِّيًا: پورا دیا جانا۔ ـ حَقَّهُ: حق پورا لینا۔ (کہا جاتا ہے: تَوَفَّيْتُ مِن فلان مالي عليه: میں نے فلاں شخص سے اپنی وہ چیز پوری کی پوری لے لی جو اس پر واجب تھی۔) ـ المدّةَ: مدت کو پہنچنا۔ ـ الشيءَ: کو مکمل کرنا۔ ـ عددَ القومِ: پوری قوم کو گننا۔ ـ ہ اللهُ: اللہ تعالیٰ کا کسی کو موت دینا۔ تُوُفِّيَ فلانٌ: کی روح قبض کیا جانا اور اس کا مر جانا۔ المُتَوَفِّي: وفات دینے والا (اللہ تعالیٰ) المُتَوَفّٰى: وفات پانے والا (بندہ) تَوَافٰى تَوَافِيًا القومُ: تمام قوم آگئی۔ اِسْتَوْفٰى استيفاءً حقَّهُ: حق پورا لینا۔ الوَافِي (فا) مونث: وَافِيَة: ایک درہم اور چار دانق۔ ـ عند الشعراء: وہ شعر جس کے اجزاء پورے ہوں۔ الوَفِيّ جمع اَوْفِياء: پورا، کامل، بہت وفا کرنے والا، حق دینے والا، حق لینے والا۔ الوَفَاء (مص) کہا جاتا ہے: مات عن وَفاءٍ: وہ مر گیا اور اس قدر مال چھوڑ گیا کہ حقوق واجبہ ادا ہو سکیں۔ ماتَ و انت بوفاءٍ: وہ مر گیا۔ تو پوری عمر زندگی گزارے۔ الوَفاة جمع وَفَيات: موت۔ المِيفاء: وفا کرنے والا۔

۲۔ اَوْفٰى اِيفاءً على المكان: جگہ کو اوپر سے جھانکنا۔ ـ على المئة: سو سے زائد ہونا۔ ـ على الشيء و في الشيء: کو اوپر سے جھانکنا۔ الوَفي و المِيفاة: زمین کا اونچا حصہ۔ المِيفَى: زمین کا اونچا حصہ، تنور کا ڈھکنا، اینٹوں کا بھٹہ یا آوا۔

○ وَفٰى يفي وَفِيًّا: کامل ہونا، مکمل ہونا، پورا، پورا ہونا، کل ہونا، جز و اہم ہونا۔ ـ وَفاءً ہ یاب: وعدہ، قسم، عہد وغیرہ پورا کرنا، کی تلافی کرنا، (حکم) بجالانا (حکم کی) تعمیل کرنا، پر عمل کرنا، کو نبھانا۔ ـ ب: (خواہش آرزو) پوری کرنا، (ضرورت، حاجت) فراہم کرنا، پوری کرنا، (مطلب و مقصد) براری کرنا، (مقصد) پورا کرنا، (قرض وغیرہ) پورا کرنا۔ ـ (قرض) ادا کرنا، (وعدہ، عہد و پیمان، حلف، قسم) پورا کرنا، (اخراجات وغیرہ) کے لئے کافی ہونا۔ ـ ب: کے لئے کافی ہونا، کی پوری طرح تلافی کرنا، مقابل میں اپنا وزن رکھنا، کے برابر ہونا، مساوی ہونا، کا کام پورا کرنا، کا قائم مقام ہونا، کو مکمل طور پر حاصل کرنا، بجا لانا۔ وَفّٰى ہ: کو معیار کے مطابق کرنا، مکمل کرنا۔ ـ ہ: کو کچھ پورا پورا دینا، کو اس کا پورا حصہ لینے دینا۔ ـ ہ: (کسی موضوع کو) مکمل طور پر پیش کرنا، یا اس پر لکھنا یا کہنا۔ وافاہ: کے پاس آنا، کے سامنے آنا، ظاہر ہونا، کی موجودگی میں آنا۔ ـ ہ ب: کے پاس کچھ لانا، کے پاس کچھ لیجانا، کو کچھ دینا، کو کچھ مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ ـ ہ: کی خواہش پوری کرنا، کی درخواست کے مطابق کام کرنا، کی درخواست پر عمل کرنا۔ وافاہ اجلُهُ: کو اس کی موت نے اچانک آلیا۔ اَوْفٰى: پورا دینا۔ ـ ہ یاب: کو پورا کرنا، کی توقع کے قریب قریب ہونا۔ ـ على: کے قریب آنا، کے قریب ہونا، کے پاس آنا، کے نزدیک جانا، کی حد سے بڑھنا، تجاوز کرنا، سے ماورا ہونا، بلند تر ہونا۔ اَوْفٰى عَلَى الانتهاء: ختم ہونا۔ عمرُهُ الآن قد اَوْفٰى على التاسعة: وہ نو سال کی عمر سے تجاوز کر چکا ہے۔ تَوَفّٰى ہ: کو جبراً پورا پورا وصول کرنا، سے اپنا پورا حصہ لینا، کو پورا پورا وصول کرنا۔ تَوَفّاهُ اللّٰهُ: اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس لے گیا۔ تُوُفِّيَ: مرنا۔ تَوَافٰى: کامل ہونا، پورا ہونا۔ ـ على: کا اتفاق رائے سے فیصلہ کرنا، کے حق میں بالاتفاق فیصلہ کرنا۔ اِسْتَوْفٰى ہ: کو پورا لینا، کو جبراً پورا لینا۔ ـ ل ہ: کو کچھ پورا پورا دینا، کو کسی چیز میں سے پورا حصہ دینا۔ ـ ہ: کو مکمل کرنا، کو آخری صورت دینا، کو پورا کرنا، نبھانا، (کسی کھیل یا پروگرام میں) آخر تک بیٹھنا، یا اسے آخر تک سننا، کی پوری قیمت ظاہر کرنا، کسی موضوع کو مکمل طور پر پیش کرنا، اس پر مکمل طور پر لکھنا، کہنا۔ جامع یا مکمل بحث کرنا، کو تفصیل سے پیش کرنا۔ ـ ہ: (شرط) پوری کرنا۔ ـ: پورا معاوضہ، تاوان، ہرجانہ وصول کرنا۔ وفاء: پورا کرنا (وعدہ) پورا کرنا، (فرض) بجالانا، (قرض) ادا کرنا، توازن، پاسنگ، معاوضہ، وفاداری، خیر خواہی، ایمانداری، دیانت داری، راستی، اصل کے مطابق ہونا، خلوص، نمک حلالی، اطاعت شعاری، خیر خواہی، فرمانبرداری، اطاعت، انقیاد، تکمیل، سرانجامی، وصولی، حصول۔ وفاءً ل: کی تکمیل میں، کو پورا کرتے ہوئے، کی بجا آوری میں، کی تعمیل میں، کی ادائیگی میں، کے ردعمل کے طور پر، کی تلافی کے طور پر، کے معاوضہ کے طور پر۔ احتفظ بالوفاء ل: کا وفادار رہنا۔ یوم وفاء النيل: دریائے نیل کے سیلاب کا دن، (دریائے نیل میں سیلاب آنے پر مصر میں عام تعطیل ہوتی ہے۔) وَفَاة جمع وَفَيات: موت، وفات کا سرٹیفکیٹ۔ كثرةُ الوفيات: اموات کی اونچی شرح۔ وَفِي جمع اوفياء: وعدہ یا قول پورا کرنے والا، باوفا (عاشق) قابل اعتماد، کامل، مکمل، پورا، تمام، کل، کل شئ، کل عدد۔ اَوْفى: زیادہ وفادار، زیادہ باوفا، زیادہ کامل، انتہائی مکمل۔ ـ ب: کسی مقصد کو بہتر طور پر پورا کرنے والا، خواہش وغیرہ کو بہتر طور پر پورا کرنے والا۔ مُوَافاة: آمد۔ ـ ب: پیغام رسانی، اطلاع۔ قادِرٌ على الايفاء: قرضے ادا کرنے کے قابل۔ استيفاء: قرض خواہ کی طرف سے واجب الادا ادائیگی کی قبولیت، پورا کرنا، تکمیل، جامع پیش کش، تحریر یا تقریر یا علاج، ادائیگی، تعمیل، تکمیل عمل، کام، کمال فن، بجا آوری، اتمام۔ وافٍ: ایماندار، مومن، وفادار، کامل، مکمل، پورا، ایک حد تک کافی، کافی، بہت، بافراط۔ مُوَفٍّ: مکمل کرنے والا۔ في الموفي عشرين (ثلاثين) من الشهر: مہینہ کے بیسویں (تیسویں) دن۔ مُتَوَفّٰى: مرنے والا، مرحوم۔

وق: وَقْوَقَ الكلبُ: کتے کا بھونکنا۔ ـ الطائِرُ: پرندے کا چہچہانا۔ الوَقْوَق (ح): وہ پرندہ جو اپنے انڈے دوسرے پرندے کے گھونسلے میں رکھ دیتا ہے اور خود نہیں سیتا۔ الوَقْواقة من الرجال: بکواسی مرد۔ امراة وقواقة: بکواسی عورت۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ وَقْوَقَ فلانٌ: بلبک کرنا صفت مذکر: وَقْوَاق صفت مؤنث: وَقْوَاقَة۔

۲۔ وَقْوَقَ الرجُلُ: کمزور ہونا۔ الوَقْوَاق: بزدل۔

○ وَقْوَاق اور وَاقْوَاق: عرب جغرافیہ دانوں کے مطابق یہ جزیروں کے دو مختلف مجموعوں کے نام ہیں، ایک ان میں سے چین کے مشرق میں اور دوسرا بحر ہند میں واقع ہے۔ وَقْوَق: کوئل نما پرندہ، کوکو۔ ککو۔

وقب: ا۔ وَقَبَ يَقِبُ وَقْبًا: گڑھے میں داخل ہونا۔ ـ وَقْبًا و وُقُوبًا تِ الشمسُ: سورج کا غروب ہونا۔ ـ الظلامُ: تاریکی کا پھیلنا۔ ـ القمر: چاند کا گہن میں آنا۔ ـ الرجُلُ: دھنسی ہوئی آنکھوں والا ہونا۔ ـ تِ عيناهُ: کی آنکھوں کا اندر کو دھنسی ہوئی ہونا۔ اَوْقَبَ ايقاباً الشيءَ: کو پتھر کے گڑھے میں داخل کرانا۔ القِبَة جمع قِبات: اوجھ کا پرت والا حصہ۔ الوَقْب (مص) جمع وُقُوب و وِقاب: پتھر کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے، روشندان، جسم کا ہر گڑھا جیسے آنکھ کا گڑھا، کندھوں کا گڑھا۔ الوَقْبة: پتھر یا جسم کا

گڑھا، بڑا روشندن، تیل اور یخنی وغیرہ کا گڑھا۔ رَكِيَّةٌ وَقْبَاء: گہرے پانی کا کنواں۔ الأَوْقَاب: گھر کا سامان۔ المِيقَاب: بڑا شرابی۔ کہا جاتا ہے: انهم يسيرون سَيْرَ الميقاب: وہ دن رات برابر چلتے ہیں۔ المِيْقَب: گھونگھا، سنکھ، صدف، سیپی، خرمہرہ۔

۲۔ وَقَبَ يَقِبُ وَقْباً الرجلُ: آنا۔

۳۔ اَوْقَبَ اِيقَاباً: بھوکا ہونا۔

۴۔ اَوْقَبَ ايقاباً النحلُ: کھجور کی چھوٹی ٹہنیوں کا بدبودار ہونا۔

۵۔ الوَقْب جمع اَوْقَاب: احمق، کمینہ۔ الوَقْبان جمع وُقْبَى: احمق۔ الوُقْبِيُّ: بیوقوفوں کی صحبت کا شوقین۔

ⓒ وقب جمع اَوْقَاب: گڑھا، سوراخ، حلقہ چشم۔ وَقْبَة: گڑھا۔

وقت: وَقَتَ يَقِتُ وَقْتاً الامرَ: کام کرنے کے لئے وقت مقرر کرنا۔ وَقَّتَ الامرَ: کام کرنے کے لئے وقت مقرر کرنا، کام کی مدت کا تعین کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَقَّتَ الأَمْرَ لِيومٍ كذا: کام کو کسی دن تک ملتوی کرنا۔ الوَقْت (مص) جمع اَوْقَات: وقت، زمانہ کا اندازہ۔ اوقاتُ السنة: سال کی فصلیں۔ المَوْقِت: وقت کی تعیین، تعین کا زمانہ، تعین کی جگہ۔ المُوَقِّت: وقتوں کا اندازہ رکھنے والا۔ وَقْتٌ مَوْقُوتٌ و مُوَقَّتٌ: مقررہ اور محدود وقت۔ المِيقات جمع مَوَاقِيت: وقت، وعدہ جس کے لئے وقت مقرر کیا گیا ہو، کبھی اس جگہ کو بھی میقات کہا جاتا ہے جہاں ملاقات کے لئے وقت مقرر کیا گیا ہو۔

ⓒ وَقَّتَ ہ: کیلئے وقت مقرر کرنا، کا دیئے گئے وقت کے لئے جدول یا گوشوارہ بنانا، کو وقت پر کرنا، کیلئے وقت کی حد مقرر کرنا، وقت جمع اوقات: وقت، وقت کا امتداد، وقفہ، مدت، عرصہ، لمحہ، آن، گھڑی، لحظہ۔ وقتاً: ایک بار، ایک مرتبہ، ایک دفعہ، ایک وقت پر، ایک دن۔ بوَقْتِه: فی الفور، فوراً۔ فِی وَقْتِه: وقت پر، صحیح وقت پر، بروقت۔ فی غیرِ وقتِه: غلط وقت پر، بے موقع، بے محل، قبل از وقت۔ فی الوقتِ نفسه یا فی نفس الوقت: اسی وقت، بیک وقت، ساتھ ہی۔ فی اوّلِ وقتٍ: ان دنوں میں ایک دن، پہلی فرصت پر۔ للوقتِ یا لوقتِه: فوراً۔ لهذا الوقت: اس وقت۔ مَعَ الوقتِ: مناسب وقت پر، وقت کے دوران، تھوڑے عرصہ میں، عنقریب، رفتہ رفتہ۔ مِن وقتٍ لآخر: وقتاً فوقتاً۔ اَوْقاتاً: اوقاتاً: وقتاً فوقتاً۔ فی بعض الاوقات: بعض اوقات کا ہے گاہے۔ فی كثيرٍ مِن الاوقات: اکثر، اکثر اوقات، بارہا، بسا اوقات، بیشتر، بار بار، کئی بار۔ وقتُ الفراغِ: فرصت، فرصت کا وقت، ضرورت کے لئے اٹھا رکھا وقت، خالی وقت، فارغ وقت۔ الوقت المدنی: اجتماعی وقت۔ وقت اُوربا الوُسْطَى: یوروپ کا مرکزی وقت۔ اشارةُ الوقت: وقت کا اشارہ (ریڈیو)۔ وَقْتَئِذٍ: تب، اُس وقت۔ وَقْتَذاكَ: تب، اُس وقت وَقْتَمَا: کے دوران میں، جب، جونہی کہ، جیسے ہی۔ وقتی: وقت کا، زمانی، زمانے کے متعلق، چندروزہ، عارضی، آنی جانی، دم بھر کا، چشم زدن میں۔ سریع الزوال، جلد گزر جانے والا، وقتیہ، فانی، ناپائیدار، ہنگامی، درمیانیں، درمیانی عرصہ کا، آن کی آن میں، پل بھر کا۔ وَقْتِيّاً: کچھ عرصہ کے لئے مختصر عرصہ کے لئے۔ تصويرٌ وقتيٌّ: فوٹو کھینچنے کے لئے کیمرہ کا لمحہ بھر کیلئے روشنی ڈالنا (time exposure)۔ مَوْقِت جمع مَوَاقِت: مقررہ وقت، ملاقات کا وقت، (چاہنے والوں سے) وعدہ ملاقات۔ مِيقات جمع مَوَاقِيت: مقررہ وقت، تاریخ، مقررہ حد، آخری مدت، وقت، موسم، سال کا وقت، ملنے کی جگہ، وعدہ کی ملاقات کا مقام (جمع) روانگی اور آمد کے اوقات، ٹائم ٹیبل (time table)۔ مواقيتُ الاقلام: کاروبار کے اوقات۔ مواقيت الحج: حج کے اوقات ومقامات۔ توقيت: وقت کا شمار، وقت کا تعین، کسی کام کے اوقات۔ توقيتٌ صيفيٌّ: گھڑیاں آگے کرنے کا وقت۔ توقيتٌ مَحَلِّي: مقامی وقت، لوکل ٹائم۔ فی الساعةِ العاشرة حسبَ توقيتِ جرينتش: گرینچ کے وقت کے مطابق دس بجے۔ موقوت: مقررہ، طے شدہ (وقت)، وقتی ہنگامی، وقت میں محدود، دیئے گئے وقت کے لئے بنایا ہوا (جدول یا گوشوارہ)، وقتی فیوز والا (بم) مُوَقِّت: وقت پر کرنے والا، وقت مقرر کرنے والا، وقت کا حساب رکھنے والا، کنٹرولر (controller)۔ مُوَقَّت و مُؤَقَّت: دیئے گئے وقت یا ساعت کے لئے بنایا ہوا (جدول یا گوشوارہ) مقررہ، طے شدہ (وقت) (کسی وقت کیلئے) مؤثر، صرف کسی وقت کیلئے، زمانی، عارضی، وقتی، ہنگامی، آنی جانی، دم بھر کا، چشم زدن میں، ناپائیدار وقتی، برق پا گریز پا۔ مُوَقَّتاً: عارضی طور پر، عبوری دور میں، فی الحال۔ بصورةٍ مُوَقَّتة: عارضی طور پر، عبوری دور میں۔ حكومة مُوَقَّتة: عبوری حکومت، عارضی حکومت۔

وقح: وَقَحَ يَقِحُ قِحَةً وَقَحَةً و وَقِحَ يَوْقَحُ وَقَحاً و وَقُحَ يَوْقُحُ وَقَاحَةً و وُقُوحَةً: بے حیا و بے شرم ہونا، برے کاموں پر دلیر ہونا۔ صفت: وَقِح۔ ـــ حافرُ الدابةِ: کھر کا سخت ہونا۔ وَقَّحَ الحوضَ: حوض درست کرنا۔ ـــ حافرَ الدابة: جانور کے کھر کو پگھلی ہوئی چربی سے سخت کرنا۔ اَوْقَحَ واسْتَوْقَحَ الحافرُ: کھر کا سخت ہونا۔ تَوَقَّحَ واتَّقَحَ: بے حیا ہونا۔ تَوَاقَحَ: بے حیائی ظاہر کرنا۔ الوَقَاح جمع وُقُح و وُقَّح: (مذکر مؤنث دونوں کیلئے): بے شرم، بے حیا۔ حافِرٌ وَقَاحٌ: سخت کھر۔ رَجُلٌ وَقِيحُ الوجه: بے شرم آدمی۔ المُوَقَّح (مفع): مصیبت زدہ۔ بعيرٌ مُوَقَّحٌ: کام سے ستایا ہوا اونٹ۔

ⓒ وَقَحَ يَقِحُ قِحَةً و قَحَةً و وَقُحَ يَوْقُحُ وَقَاحَةً و وُقُوحَةً و وَقِحَ يَوْقَحُ وَقَحاً: بے شرم ہونا، بے حیا ہونا، گستاخ ہونا، ڈھیٹ ہونا۔ تَوَقَّحَ: بے شرم، بے حیا، گستاخ یا ڈھیٹ ہونا۔ ـــ علی: سے گستاخی سے پیش آنا، گستاخانہ اخلاق و عادات کا مظاہرہ کرنا۔ تَوَاقَحَ: بے حیائی کا مظاہرہ کرنا، گستاخانہ انداز سے پیش آنا یا گستاخانہ رویہ اختیار کرنا۔ قِحَة: بے شرمی، بے حیائی، گستاخی، بدتمیزی، شوخ چشمی۔ وَقَاح: (مذکر ومؤنث) جمع وُقُحٌ: بے شرم، بے حیا، گستاخ، بدتمیز، شوخ چشم، تیز، دلیر، من چلا، بے ادب۔ وَقِح: بمعنی وَقَاح۔ وَقِيح: بمعنی وَقَاح۔ وَقَاحَة و وُقُوحَة: بے شرمی، بیحیائی، گستاخی، بے ادبی، شوخ چشمی، شوخی، ہمت، جرأت، خود اعتمادی۔

وقد: ا۔ وَقَدَ يَقِدُ وَقْداً و وَقَداً و وُقُودًا و وَقَدَاناً و قِدَةً واتَّقَدَ: چمکنا۔ ـــ ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ کہا جاتا ہے: وقدت بِكَ زِنادی: تیری وجہ سے میری مراد بر آئی۔ وَقَّدَ النارَ: آگ سلگانا، روشن کرنا، جلانا۔ اَوْقَدَ النارَ: آگ سلگانا، روشن کرنا، جلانا۔ کہا جاتا ہے: اَبْعَدَ اللّٰهُ دارَهُ واَوْقَدَ ناراً أثرَهُ: اللہ تعالیٰ اسے واپس نہ بھیجے۔ تَوَقَّدَ الكوكبُ: ستارہ کا چمکنا۔ ـــ ت النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ إِسْتَوْقَدَتِ النارُ: آگ کا بھڑکنا۔ الوَقْد و الوَقَد (مص): آگ۔ الوَقْدَة: ایک مرتبہ جلنا، سخت گرمی۔ الوِقاد و الوَقِيد و الوَقُود: ایندھن۔ الوَقَّاد: اسم مبالغہ۔ كوكبٌ وَقَّاد: بہت روشن ستارہ۔ رَجُلٌ وَقَّادٌ: تیز طبع، ذہین۔ المَوْقِد جمع مَوَاقِد و المُسْتَوْقَد: چولہا۔ المَوْقِدَة: بھٹی، سٹوو (stove)۔ المُتَوَقِّد (فا): روشن، تیز طبع۔ زَنْدٌ مِيقادٌ: فوراً جل اٹھنے والی

چقماق کی اوپر کی لکڑی۔

۲۔ القِدَۃ (اصل میں الوَقدۃ ہے): جس کی پیروی کی جائے۔ (اس معنی میں اصل قِدۃ ہے۔ ان دونوں میں ہ واو سے بدل گئی ہے)۔

○ اوقدفیہ النار: کو آگ لگانا۔ تَوَقَّدَ ہ: کو روشن کرنا، جلانا، آگ لگانا۔ اِتَّقَدَ (غصہ کا) بھڑکنا، (جوش کا) ابھرنا۔ اِتَّقَدَ غیرۃً (حماساً) علی: کیلئے جوش سے بھڑکنا۔ وَقْد و وَقَدٌ: جلنا، احتراق، عمل احتراق، آگ، ایندھن۔ وَقَدَۃ: آگ، شعلہ۔ وِقاد: ایندھن۔ وَقّاد: جلنے والا، شعلہ فشاں، آگ کا سا، یکدم بھڑک اٹھنے والا، زندہ دل، شگفتہ مزاج، مشتعل، چمکدار، روشن، تاباں، تیز طبع، ذہین: فروزاں، تابندہ، نور افشاں یا شعاع افشاں (ستارہ) (جمع وَقّادُون): بھٹی میں ایندھن جھونکنے والا، بھٹی والا۔ وَقُود: ایندھن، ایندھن برائے موٹر وغیرہ۔ مخزنُ الوَقود: کوئلے کا گودام۔ وَقِید: ایندھن۔ مَوقِد جمع مَواقِد: چولہا، انگیٹھی، آتش دان، سٹوو (stove)، ریل انجن کا بائلر۔ مَوقِدُ النار: مٹی کے تیل کا چولہا۔ ایقاد: روشن کرنا، جلانا، آگ لگانا۔ تَوَقُّد: جلنا، احتراق، عمل احتراق۔ اِتِّقاد: جلنا، احتراق، عمل احتراق۔ مَوقُود: جلایا ہوا، روشن کیا ہوا، آگ لگایا ہوا، جلتا ہوا، بھڑکتا ہوا۔ مُتَوَقِّد: جلنے والا، جلتا ہوا، بھڑکتا ہوا، شعلہ زن، مبالغہ آمیز، روشن۔ مُتَوَقِّدُ الذہن: تیز، آتش مزاج، من موجی، خوش طبع، شگفتہ خاطر۔ مُتَّقِد: بھڑکتا ہوا، جلتا ہوا، جوش انگیز۔ مُستَوقَد: چولہا، آتشدان، انگیٹھی، پانی گرم کرنیکا چولہا (geyser)۔

وقذ: ۱۔ وَقَذَ یَقِذُ وَقْذاً ہُ: کو پچھاڑنا، پر مہلک ضرب لگانا صفت مفعولی: وَقِیذ و مَوقُوذ۔ ۔۔ ہُ النُّعاسُ: پر نیند کا غلبہ ہونا۔ ۔۔ و اَوقَذَ فلاناً: کو بیمار چھوڑنا۔ الوَقِیذ مونث وَقِیذۃ جمع وَقائذ: مہلک بیماری میں مبتلا، بوجھل، سست۔ وَقِیذُ الجَوانح: غمگین دل آدمی۔

۲۔ الوَقائذ واحد وقیذۃ: بجھے ہوئے پتھر۔ المَوقِذ جمع مَواقِذ: اطراف بدن جیسے ٹخنہ، گھٹنا، کندھا۔

وقر: ۱۔ وَقَرَ یَقِرُ و وَقِرَ یَوقَرُ وَقراً و وُقِرَتْ اُذُنُہُ: بہرہ ہونا، اونچا سننا۔ صفت: مَوقُورۃ: بہرا (کان) وَقَّرَ تَوقِیراً للشیءِ: کے نشان بنانا۔ کہا جاتا ہے: وَقَّرَتنی الاَسفار: سفروں نے مجھ کو مشاق بنادیا۔ اَوقَرَ اِیقاراً و قِرۃً (خلاف قیاس) الدابۃَ: جانور پر بھاری بوجھ لادنا۔ ۔۔ ت النخلۃُ و اَوقَرَت کھجور کے درخت کا بہت پھلدار ہونا صفت: مُوقِر و مُوقِرۃ و مُوقَرۃ۔ ۔۔ الدَّینُ فلاناً: قرض کا کسی کو گراں بار کرنا۔ اِستَوقَرَ اِستِیقاراً تِ الاِبلُ: اونٹوں کا موٹا ہونا، بھاری بوجھ اٹھانا۔ ۔۔۔ وِقرۃُ طعاماً: کھا لینا۔ القِرۃ (مص) جمع قِرات: بوجھ، اہل و عیال، بیماری کا وقت۔ الوَقر (مص): کہا جاتا ہے: فی صدرہِ وَقرٌ: اس کے دل میں کینہ ہے۔ الوِقر جمع اَوقار: بھاری بوجھ، پانی سے بوجھل بادل۔ وَقرۃُ الدہر جمع وَقَرات: زمانہ کی سختی و مصیبت۔ الوَقَرات: نشانات، آثار۔ الوَقِیر: ذلیل، بے عزت۔ اذنٌ وَقِیرۃٌ: بہرا کان۔ المِیقارُ من النخل جمع مَواقِیر: پھل سے لدا ہوا کھجور کا درخت۔ المُوَقَّر (مفع): تجربہ کار عقلمند، جہاندیدہ۔

۲۔ وَقَرَ یَقِرُ وَقراً و وُقُورۃً فی بیتہ: گھر میں وقار کے ساتھ بیٹھنا۔ ۔۔۔ قِرۃً و وَقارۃً و وَقراً و وَقُرَ یَوقُرُ وَقارۃً و وَقاراً الرجلُ: باوقار ہونا، ثابت رہنا۔ وَقَّرَ تَوقِیراً الشیخَ: کی تعظیم کرنا، عزت کرنا۔ ۔۔۔ الدابۃَ: جانور کو آرام دینا۔ تَوَقَّرَ و اِتَّقَرَ: باوقار ہونا۔ الوَقر من الرجال: سنجیدہ، باوقار۔ القِرۃ جمع قِرات: بہت بوڑھا۔ الوَقار: سنجیدگی، عظمت۔ ۔۔۔ من الرجال: باوقار۔ الوَقُور جمع وُقُر: (مذکر و مونث): باوقار۔

۳۔ وَقَرَ یَقِرُ وَقراً العظمَ: ہڈی کو پھاڑنا۔ وُقِرَ العظمُ: ہڈی کا پھٹنا۔ صفت: مَوقُور و وَقِیر۔ وَقَّرَ تَوقِیراً فلاناً: کو زخمی کرنا۔ الوَقر (مص) جمع وُقُور: پنڈلی کا شگاف، پتھر یا ہڈی وغیرہ میں گڑھا یا شگاف۔ الوَقرۃ جمع وَقَرات: اسم مرۃ، پتھر یا ہڈی میں گڑھا یا شگاف۔ الوَقِیر: زخمی ہوئی ہڈی۔ ۔۔ و الوَقِیرۃ: چٹان کا بڑا گڑھا جو پانی روکتا ہے۔

۴۔ القِرۃ جمع قِرات: بکریوں کا گلہ۔ الوَقَرِی: بکریوں اور بھیڑوں کا چرواہا یا ان کا جمع کرنے والا۔ الوَقِیر: بکریوں کا گلہ، لوگوں کا گروہ۔ المَوقِر: پہاڑ کے دامن کا میدان۔

○ وَقَرَ یَقِرُ وَقراً ہ: کوئی چیز خصوصاً ہڈی توڑنا، ترقنا۔ ۔۔۔ مسلمہ حقیقت ہونا، رہنا، ٹھہرنا۔ وقر فی نفسہ أن: اس کے نزدیک یہ ایک مسلمہ حقیقت تھی کہ۔ وَقَرَ فی خَلَدِہِ: اس کے نزدیک یہ ایک مسلمہ حقیقت تھی کہ۔ وقرت الصورۃ فی نفسہ: اس کے ذہن کی آنکھ کے سامنے تصویر صاف کھڑی تھی۔ وَقُرَ یَوقُرُ وَقاراً و وَقارۃً: سنجیدہ ہونا، متین ہونا، باوقار ہونا، باوجاہت ہونا، وجیہ ہونا۔ وَقَّرَہ: کی عزت کرنا، کا احترام کرنا، کا عقیدت مند ہونا، کی تعظیم کرنا، کو سنجیدہ یا متین کرنا۔ اَوقَرَ ہ: جانور پر بوجھ لادنا، بہت بوجھ لادنا۔ ۔۔۔ ہ: کو کچلنا، پر ظلم کرنا، کو زیر کرنا، کو دبانا، پر بہت بوجھ ڈالنا۔ ۔۔: درخت کا پھلوں سے بہت زیادہ بوجھل ہونا۔ وَقر جمع وُقُور: سوراخ، گڑھا، خلا، کھو۔ وَقْرۃ: سوراخ، گڑھا، خلا، کھو۔ وِقر جمع اَوقار: بھاری بوجھ، بوجھ۔ وَقار: سنجیدگی، متانت، عظمت، پر احترام، رویہ، تحمل، باوقار وضع۔ وَقُور سنجیدہ، متین، باوقار، محترم، مقدس۔ تَوَقُّر: باوقار رویہ یا وضع۔ مُوَقَّر: محترم، معزز، بزرگ۔

وقس: وَقَسَ یَقِسُ وَقساً الجربُ فی بدنہ: خارش کا بدن میں پھیل جانا ۔۔۔ الفاحِشۃَ: بری بات کا ذکر کرنا۔ ۔۔۔ ہُ بالمَکرُوہ: پر کسی ناگوار بات کا الزام لگانا۔ ۔۔ الجلدَ: کھال چھیلنا۔ وَقَسَ الابلَ: اونٹوں کو کھجلی لگانا۔ الاَوقاس: اوباش لوگوں کا گروہ۔

وقش: ۱۔ وَقَشَ یَقِشُ وَقشاً الرسمُ: نشان کا مٹنا۔

۲۔ وَقَشَ یَقِشُ وَقشاً من فلان: سے بخشش پانا۔ ۔۔ و اَوقَشَ لہُ بشیءٍ: کو کچھ تھوڑا سا دینا۔

۳۔ تَوَقَّشَ: حرکت کرنا۔ الوَقش: آواز، حرکت۔ ۔۔ و الوَقَش: آگ سلگانے کی لکڑی کی چھپٹیاں۔ الوَقشۃ و الوَقَشۃ: آواز، حرکت۔

۴۔ الوَقش: عیب۔ الاَوقاش: اوباش۔

وقص: وَقَصَ یَقِصُ وَقصاً عنقَہُ: کی گردن توڑ دینا۔ ۔۔ تِ العنقُ: گردن ٹوٹنا۔ ۔۔ ت بہ الدابۃُ: جانور کا کسی کو گرا کر گردن توڑ دینا۔ ۔۔ رأسَہُ: سر کو نیچے سے دبانا۔ ۔۔ الشیءَ: کو عیب لگانا، گھٹانا۔ وَقِصَ یَوقَصُ وَقَصاً: چھوٹی گردن والا ہونا۔ صفت: اَوقَص مونث وَقصاء جمع وُقص: کبھی گردن کی صفت کے طور پر بھی یہ لفظ آتا ہے اور کہا جاتا ہے: عنقٌ اَوقَص و عُنقٌ وقصاء: (چھوٹی گردن، کوتاہ گردن)۔ وُقِصَ الرجلُ: خراش شدہ گردن والا ہونا۔ صفت: مَوقُوص۔ وَقَّصَ عنقَہُ: کی گردن توڑنا۔ ۔۔ السبعُ: درندہ کا شکار کو لے کر کھانا۔ ۔۔ علی النار: آگ میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالنا۔ اَوقَصَ ہُ: کو کوتاہ گردن پیدا کرنا۔ تَوَقَّصَ البعیرُ: اونٹ کا ڈلکی چال چلنا۔ تَواقَصَ: چھوٹی گردن والے کی طرح ہونا۔ الوَقص (مص): عیب۔ ۔۔۔ فی العروض: علم عروض کی اصطلاح میں حرف ثانی متحرک کو گرا دینا۔ الوَقَص (مص) جمع اَوقاص: آگ سلگانے کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں۔ کہا جاتا ہے: اتانا اوقاصٌ من بنی

فلانٍ ہمارے پاس فلاں قبیلے کے اراذل آئے۔
الوَقَّاصُ وقاقیص کا واحد، پرندوں کے شکار کا جال۔
کہا جاتا ہے: خُذْ اَوْقَصَ الطریقین دو راستوں
میں سب سے چھوٹا راستہ اختیار کرو۔ یا قریب ترین
راستہ اختیار کرو۔ الوَقِیصَۃ الوقائص کا واحد، گردن
کا منکا، شکار، عام لوگ اسے بدبودار مردار کے معنی میں
استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں: وَقَصَ الطائرُ
پرندہ نے مردار کھایا۔ المَوْقُوص (مفع) ٹوٹا ہوا۔
۔ فی العروض علم عروض کی اصطلاح میں وہ وزن
جس کا حرف ثانی متحرک گرا دیا گیا ہو۔ بعض کے
نزدیک ایسا حرف متفاعلن میں ہوتا ہے، جو مفاعلن
ہوجاتا ہے۔

☜ وَقَصَ یَقِصُ وقصاہ کی گردن توڑ دینا۔

وقط: وَقَطَ یَقِطُ وَقْطًا دُ کو پچھاڑنا، کو مار کر سست کر
دینا۔ وُقِطَ فی راسہ سر میں بوجھ محسوس کرنا۔ کہا
جاتا ہے: اَکلتُ طعاماً وقطنی میں نے کھانا
کھایا تو اس نے میرا سر بھاری کردیا اور مجھے سلا دیا۔
وَقْطُ الصخرُ: چٹان کا گڑھے والا ہونا۔ اِستَوْقَطَ
استیقاطاً المکانُ: جانوروں یا انسانوں کے
روندنے سے کسی جگہ گڑھا پڑ جانا۔ الوَقْطُ و الوَقِیطَۃ
جمع اَوْقاط: وہ گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو
جائے۔ الوَقِیط جمع وِقاط و وُقْطان و اِقاط:
وہ گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہوجائے۔۔ جمع
وُقْطَی و وَقاطَی مونث وَقِیط مار، بیماری یا شکم
سیری کی وجہ سے سست، بےخوابی سے کسلمند۔

وقظ: وَقَظَ یَقِظُ وَقْظًا دُ: کو اتنا مارنا کہ وہ قریب المرگ
ہوجائے۔۔ علی الامر کو مسلسل کرنا، پر جما رہنا۔
الوَقِیظ: جو اٹھ نہ سکے۔

☜ وَقَظَ یَقِظُ وَقْظًاہ: کو بہیمانہ طور پر مارنا۔ وَقَّظَ ہ:
(جذبات وغیرہ) کو ابھارنا، اُکسانا، برافروختہ کرنا۔

وقع: وَقَعَ یَقَعُ وُقُوعاً الشیءُ من یدی: چیز کا ہاتھ
سے گرجانا۔۔ الحقُّ: ثابت ہونا۔۔ القولُ
علیھم: پر واجب ہونا۔۔ ت الابلُ: اونٹوں کا
بیٹھنا۔۔ ت الدوابُّ: جانوروں کا بیٹھنا۔۔ ربیعٌ
بالارض: موسم خریف میں پہلی بارش برسنا، اس کے
لئے سَقَطَ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔۔ الطیرُ علی
شجرٍ او ارضٍ: پرندوں کا درخت یا زمین پر اترنا۔
صفت وُقُوعٌ و وُقَّعٌ۔۔ فی الشرَکِ: جال میں
پھنسنا۔۔ فی ارضٍ فلاۃٍ: کھلی زمین میں داخل
ہونا۔ الرجُلُ فی عملہ: کام میں نرمی برتنا۔
فی العمل: کام شروع کرنا۔۔ الکلام فی
نفسہ: کلام کا دل میں اثر کرنا۔۔ الامرُ: حاصل
ہونا۔ کہا جاتا ہے: وَقَعَ لہٗ واقِعٌ اس کو ایک حادثہ
پیش آیا۔ وُقُوعًا و وَقِیعَۃً فی فلان: کو گالی دینا،
پر عیب لگانا، کی غیبت کرنا۔۔ وَقْعًا اِلی کذا: کی
طرف تیز تیز جانا چلنا۔۔ من کذا او عن کذا:
سے رکنا، ایک طرف ہونا۔۔ النصلَ بالمِیقَعَۃِ:
پھل کو تیز کرنا۔ صفت مفعولی: وَقِیعٌ۔۔ البعیرَ:
اونٹ کی رانوں کے کناروں پر گول داغ لگانا۔۔۔
وَقْعًا و وَقْعَۃً بالعدو: دشمن سے سخت مقابلہ کرنا،
جنگ و جدال کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَقَعَ عند فلان
مَوْقِعاً حَسَناً: سے حصہ و مرتبہ پانا۔ وقع الامرُ
منہ موقعاً حسناً او سیئاً: کی کے ہاں اچھی یا بری
تاثیر ہونا۔ وَقَعَ موقعاً من کفایتہ: مالدار ہونا۔
فلانٌ یسفُّ ولایقعُ: فلاں کام کے قریب جاتا ہے
مگر کرتا نہیں۔ ھذہ نعلٌ لا تقع علی رحلی: یہ
جوتا میرے پاؤں کے مناسب نہیں۔ وَقِعَ یَوْقَعُ
وَقَعًا: ننگے پاؤں چلنا، زمین کی سختی یا پتھروں کی وجہ
سے پیروں کا دکھنا۔ صفت وَقِعٌ۔ وُقِعَ فی یدہ:
نادم ہونا۔ وَقَّعَ الوَبَرُ ظھرَ البعیرِ: پشم کا اونٹ کی
پیٹھ پر نشان ڈالنا۔۔ المطرُ الارضَ: بارش کا زمین
میں کہیں اُگانا کہیں نہ اُگانا، بارش کا زمین پر چھڑکاؤ
کرنا۔۔ العھدَ او الفرمانَ: عہدنامہ یا فرمان پر
شاہی مہر لگانا۔۔ الکتابَ او الصکَّ: تحریر یا چک کے
نچلے حصہ پر دستخط کرنا۔۔ الکاتبُ الکتابَ: کاتب
کا تحریر سے فضول چیزوں کو حذف کرنا۔۔ تِ الابلُ:
اونٹوں کا بیٹھنا۔۔ ظنَّہٗ علی الشیءِ: کسی چیز
کا اندازہ کرنا۔۔ علی فلان: پر رائے قائم کرنا۔
الصیقلُ علی السیف: تلوار کو تیز کرنے کی طرف
متوجہ ہونا۔۔ الحجارۃُ حافرَہٗ: پتھروں کا کھر کے
سر کو ٹکڑے ٹکڑے کردینا۔۔ القومُ: آخر شب کو آرام
کے لئے اترنا۔ واقَعَ وِقاعًا و مُواقَعَۃً ہ: سے لڑائی
کرنا۔۔ الامورَ: امور کے قریب ہونا اور ان کو کرنا۔
اَوْقَعَ اِیقاعاً ہٗ: کو واقع کرنا، گرانا۔۔ بالعدو:
دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔۔ بہ الشرَّ: کو بدی میں الجھا
دینا۔۔ الدھرُ بہ: زمانہ کا کسی پر مصائب ڈالنا۔
ت الروضۃُ: باغ کا پانی کو روک لینا۔۔ المُغَنِّیُ:
موسیقار کا سر ٹھیک کرنا۔ تَوَقَّعَ الامرَ: کے حاصل
ہونے کی امید کرنا۔ تَواقَعَ الاعداءُ: دشمنوں کا
آپس میں لڑنا، ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اِسْتَوْقَعَ
الامرَ: کے حصول کا انتظار کرنا، سے خوف کھانا۔۔
السیفُ: تلوار کا تیز کئے جانے کا ضرورت مند ہونا۔
الواقِع جمع وُقَّع و وُقُوع (فا): طائرٌ واقِعٌ:
درخت پر یا گھونسلے میں رہنے والا پرندہ۔ کہا جاتا ہے:
رجُلٌ واقعُ الطیر: نرم مزاج کا آدمی۔ النسرُ
الواقِع (فلک): ایک ستارہ کا نام جو قطب شمالی کے
قریب ستاروں کے جھرمٹ کے نزدیک ہوتا ہے۔
الواقِعَۃ: الواقع کا مونث: لڑائی کا تصادم، مصیبت،
قیامت۔ رجُلٌ واقِعَۃٌ: بہادر آدمی۔ الواقِعِیّ:
واقعیت پسند، حقیقت پسند، حقیقت نگار۔ الواقِعِیَّۃ:
واقعیت پسندی، حقیقت پسندی، حقیقت نگاری۔
الوَقْع (مص): واحد وقعۃ: چوٹ کی آواز (آپ
کہتے ہیں: سمعتُ وَقْعَ حافرِ الدابۃ و وقع
المطرِ: میں نے جانور کے کھر یا بارش کے گرنے کی
آواز سنی) پہاڑ کی بلند جگہ، بارش کی امید دلانے والا
بادل، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ کہا جاتا ہے: لفلان
وقع عند الامیر: فلاں شخص کی حاکم کے ہاں قدر و
منزلت ہے۔ الوَقَع (مص): واحد وَقَعَۃ: چھوٹی
چھوٹی کنکریاں۔ الوَقِیع: بارش کی امید دلانے والا
بادل۔ الوَقْعَۃ جمع وَقَعات: وقع کا اسم مرہ،
جنگ کا تصادم، آخر شب کی نیند، دن میں ایک بار کی
قضائے حاجت، پرندے کا اترنا۔ وَقْعَۃُ السیف:
تلوار کا پڑنا۔۔ عندالعامۃ: ایک بار کا کھانا۔ الوِقْعَۃ:
وقع کا اسم نوع۔ وَقاع: گھوڑے کا گول داغ۔ الوَقاعَۃ:
زمین کی سختی جس کی وجہ سے پانی جذب نہ ہو۔ وَقاعَۃُ
الستر: زمین پر پردے کے پڑنے کی جگہ۔ الوَقّاع
والوَقّاعَۃ: لوگوں کی غیبت کرنے والا۔ الوَقِیع
جمع وُقُع: تیز کیا ہوا پھل، پتھروں سے رگڑ کھایا ہوا
کھر، سخت جگہ جو پانی کو جذب نہ کرے۔ وَقِیعُ الرجُلِ:
جس کے پاس کوئی شخص تو پناہ لینے آئے۔ وہ اسے کہتا
ہے: انا وَقِیعُکَ: میں وہ ہوں جس کے پاس تو پناہ
لینے آیا ہے۔ الوَقِیعَۃ جمع وِقاع و وَقائع: لڑائی
کا تصادم، غیبت، پانی کا گڑھا۔ وقیعۃ الطائر:
پرندے کے اترنے کی وہ جگہ جہاں وہ اترنے کا عادی
ہو۔ وَقائعُ العرب: عربوں کی لڑائیاں۔ الایقاع
(مص): تال۔ التَوقِیعُ (مص) جمع تَواقِیع:
اندراج، دستخط، رائے، تصور۔ توقیع السلطان:
شاہی فرمان یا فیصلہ، شاہی مہر۔ المَوْقِع جمع
مَواقِع: گرنے کی جگہ، جائے وقوع۔ مَواقِعُ
القطر: قطر کے حصے۔ مَواقِعُ القتال: جنگ کے
مقامات۔ مَوْقَعَۃُ الطائر جمع مَواقِع: پرندے
کے اترنے کی جگہ۔ المُوَقِّع (فا): ہلکے قدم رکھنے
والا، شاہی مہر کی حفاظت کرنے والا، فرمان شاہی کا

لکھنے والا۔ المُوَقَّع (مفع): مصیبت زدہ، بہت چلنے والا راستہ، تیز کی ہوئی چھری۔ المَوْقُوع (مفع): پتھروں سے رگڑ کھایا ہوا (کھر)۔ قدمٌ مَوقُوعَة: موٹا سخت قدم۔ المِیقَعَة جمع مَوَاقِع: ہتھوڑا، لکڑی کا پھٹا جس پر دھوبی کپڑے کوٹتا ہے، سان کا پتھر۔ مِیقعةُ الطائِر: پرندے کے اترنے کی مانوس جگہ۔

وَقَعَ یَقَعُ وُقُوعًا: گرنا، نیچے گرنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا، واقع ہونا، ہونا، وقوع میں آنا، رونپذیر ہونا۔ ل: کو پیش آنا، پر نازل ہونا۔ فی: میں پہنچنا (کسی صورت حال یا مشکل میں پہنچنا)۔ إلی: کے پاس آنا۔ علی: سے ملنا، سے اتفاقاً ملنا، کو اتفاقاً پانا، سے اچانک مل جانا، کے حصہ میں آنا، (پرندے کا) کسی جگہ اترنا، آرام سے بیٹھنا، کسی عورت سے مجامعت کرنا۔ فی: میں تقسیم ہونا۔ فی: پر مشتمل ہونا۔ واقع ہونا۔ وقیعةً ب یا فی: پر تہمت لگانا، کی چغلی کھانا، چغل خوری کرنا، کو بدنام کرنا، رسوا کرنا، کی بدگوئی کرنا، ازالہ حیثیت عرفی کرنا، کی تحقیر کرنا، کو گھٹا کر دکھانا۔ وُقُعًا ب: پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا، پر حملہ کرنا، ٹوٹ پڑنا۔ وقعوا فی بعضهم: ایک دوسرے سے لڑنا، جھگڑنا، جھگڑے لگنا۔ وقع بایدیهم: کے ہاتھ آجانا۔ وقع تحت حَوَاسِه: کے ادراک کی زد میں آنا، کو محسوس ہونا، پر واضح ہونا، قطعی ہونا۔ وَقَعَتْ فی حبه: سے محبت ہو جانا، سے عشق ہونا۔ وَقَعَتْ حربٌ: جنگ یکا یک لگ جانا یا شروع ہونا۔ وقع الحقُّ: قانون کا تعین ہونا۔ وقع الحقُّ علیه: مجرم پایا جانا، قصوروار پایا جانا۔ وقع فی الفخ: جال میں آجانا، پھنسنا۔ وقع فریستَهُ: کا شکار ہونا۔ وَقَعَ مِن قلبه فی مکان: کے دل کو لگنا، کا بیڑا اٹھانا، پر توجہ کرنا۔ وقع القولُ علیه: سے بولنے کا تقاضا کیا گیا، کو تقریر کرنے کا موقع دیا گیا۔ وقع فی نفسه أن: اس کے دل میں آیا، کو خیال آیا کہ۔ وقع الکلام فی نفسه: الفاظ نے اسے متاثر کیا۔ وقعت فی (من) نفسه: اس نے اس پر اثر ڈالا، اس نے اس پر جادو کر دیا، کو فریفتہ کر دیا۔ وقع فی هواها: وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وقع موقعَهُ: کی جگہ لینا، کی علامت ہونا، پر مشتمل ہونا، کی تائید کرنا۔ وقع فی غیر موقعه: غلط جگہ پر ہونا، (لفظ کا) غلط سیاق و سباق میں استعمال ہونا، غلط جگہ رکھا جانا۔ وقع الکلام منه موقعاً: الفاظ نے اسے متاثر کیا۔ وقع الامر منه موقعاً حسناً: معاملہ نے اسے بہت خوش کیا، کے لئے معاملہ انتہائی خوش آئند تھا۔ وقع عنده موقعَ الرِضی: اسے اسکی منظوری ملی وہ بہت پسند کیا گیا۔ وقع فی النفوس موقعاً جلیلاً: دلوں پر سخت یا شاندار تاثر چھوڑنا۔ وقع موقعَ الاستغراب: سخت تعجب کا باعث ہونا۔ وَقَّعَ ہ یا ہ: کو گرانا، گرنے دینا، کا خاتمہ کرنا، کو شکست دینا۔ ہ: پر عمل کرنا، کو کرنا، کی تعمیل کرنا، کو بجا لانا۔ ہ فی یا علی: کا میں یا پر اندراج کرنا، کو درج کرنا، رجسٹر کرنا، ریکارڈ کرنا۔ ہ: پر دستخط کرنا۔ ہ علی: (سزا) کسی کو دینا۔ علی: (کوئی ساز) بجانا۔ بین: میں یا کے درمیان اختلاف رائے، نزاع، ان بن یا نااتفاقی کا بیج بونا، کو آپس میں لڑانا۔ وَقَّعَ حجزاً علی: کو گرفت کرنا، ضبط کرنا، کو قرق کرنا۔ وَقَّعَهُ بالاحرف الاولی: پر مخفف دستخط کرنا۔ وَقَّعَ نفسَهُ: اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کرنا۔ وَقَّعَ علی الوتر الحسَّاس: حساس حصہ کو چھونا، حساس مقام پر انگلی رکھنا۔ وَاقَعَ ہ: پر حملہ کرنا، سے لڑنا۔ وَاقَعَ ها: سے صحبت کرنا، مباشرت کرنا۔ اَوْقَعَ ہ یا ہ: کو گرانا، کو گرنے دینا، کے گرنے کا باعث ہونا، کو نیچے گرانا، کو شکست دینا، کا خاتمہ کرنا، کو ختم کرنا۔ ہ فی: کو میں گھیرنا، کو کسی مشکل یا صورت حال میں مبتلا کرنا۔ ب: پر سختی سے حملہ کرنا، پر حملہ کرنا، ہلہ کرنا، دھاوا بولنا، پر ضرب لگانا۔ بین ۔ و بین: کے مابین نااتفاقی کے بیج بونا، کو آپس میں لڑانا، کو ایک دوسرے سے متنفر کرنا۔ اَوْقَعَ الرعبَ فی قلبه: کو خوفزدہ کرنا، کے دل میں دہشت پیدا کرنا۔ اَوْقَعَ عقوبةً علی: کو سزا دینا۔ اَوْقَعَهُ فی کمین: کو گھات میں بیٹھی ہوئی فوج یا کمین گاہ میں لیجانا۔ تَوَقَّعَ ہ: کی امید کرنا، توقع کرنا، کا اندازہ کرنا، کیلئے اپنے آپ کو تیار کرنا، کا انتظار کرنا، سے دہشت کھانا، ڈرنا۔ علی: کو سزا ملنا، کے خلاف (فیصلہ کا) سنایا جانا۔ استوقع ہ: کی امید کرنا، کی توقع کرنا، کا اندازہ کرنا، سے دہشت کھانا، ڈرنا، کے بارے میں بے چینی محسوس کرنا، تشویش کرنا، کی اندیشہ کے ساتھ امید کرنا۔ وَقْع: گرنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا، گر پڑنا، مکا، گھونسا، تھپڑ، بھد سے گرنا، ضرب، واقعہ، ہونا، رونپذیر ہونا، وقوعہ، اثر، تاثر، اثر، تصادم، ٹکر، دباؤ۔ وقع الأقدام: چاپ، آہٹ، نقش قدم۔ وقع اقدام ثقیلة: بھاری چاپ یا آہٹ۔ کان لهُ احسنُ وقعٍ فی النفوس: ہر ایک پر بہترین تاثر قائم کرنا۔ وَقْعَةٌ: گرنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا، پڑنا، بھد سے گرنا، مکا، گھونسا، تھپڑ، ضرب، صدمہ، ہچکولہ، واقعہ، ماجرا، ٹکراؤ، وقوع، جنگ و جدل، مڈبھیڑ، لڑائی، مقابلہ، معرکہ کارزار، خوراک، کھانا، ناشتہ، غذا۔ وَقَّاع و وَقَّاعَة: غماز، چغلخور، تہمت تراش، بدنام کرنے والا، بدنامی کی باتیں پھیلانے والا، بہتان لگانے والا، غیبت کرنیوالا۔ وقوع: گرنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا، آرام سے بیٹھنا، ماجرا، وقوع، حادثہ، واقعہ، سانحہ۔ وَقِیعة جمع وَقَائِع: واقعہ، ماجرا، واردات، حادثہ، سانحہ، معرکہ، جنگ، لڑائی، مڈبھیڑ، مقابلہ۔ (جمع وقائع): واقعات، عجیب واقعات، نئی صورت حال، واقعاتی معلومات، دریافتیں، واقعاتی شہادت، کسی قانونی مقدمہ کے) حقائق، (اسمبلی وغیرہ کی) کارروائی، کی کارروائی کا خلاصہ، حقائق۔ دَفْتَر الوقائع: روداد نامہ۔ الوقائع المصریة: مصر کا سرکاری گزٹ (قدیم ترین عربی اخبار)۔ مَوقِع جمع مَوَاقِع: وہ جگہ جہاں کوئی چیز گرے، جگہ، موقع، موقع کی جگہ، مقام علاقہ، جائے وقوع، محل، ٹھیک جگہ، اصلی مقام (بحری جہاز، فوج کا)، سین، منظر، صورت حال، محل وقوع، پوزیشن مورچہ، تاثر، کسی چیز کے پڑنے کی تاریخ اور وقت۔ مواقعُ الاطلال: کھنڈرات (کی جگہیں)۔ مواقع النظر: فراست کا میدان یا دائرہ۔ موقعٌ مُتَقَدِّم: اگلا مورچہ۔ مواقع النجوم: ستاروں کے مدار۔ لم یکن یعرف موقعَ وقته ذاك من اللیل: وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت رات کتنی گزر چکی تھی۔ مَوْقِعَة جمع مَوَاقِع: میدان جنگ، لڑائی، معرکہ کارزار، مقابلہ۔ مِیقَعَة: سان۔ توقیع جمع توقیعات: دستخط۔ بتوقیع فلان یا تحتَ توقیع فلان: کے دستخطوں سے، کی قلم سے۔ مُهْمَلُ التوقیع: بلا دستخط۔ توقیعی: موزونیت یا تناسب والا۔ وِقاع: وصال، مباشرت، مجامعت، صحبت۔ ایقاع جمع ایقاعات: تال ترنم۔ ایقاعی: متناسب، تال دار موزوں، لے دار۔ وَاقِع: گرنے والا، پڑنے والا، الٹ کر گرنے والا، بری طرح گرنے والا، واقع ہونے والا، حقیقی، واقعی، اصل، واقعاتی، مادی، محسوس، واضح، واقعہ، حقیقت، واقعہ، امر واقعہ، واقعاتی معلومات یا دریافتیں، واقعاتی شہادت، حقائق، واقع، (فعل) متعدی۔ الواقع: حقیقت، واقعہ، حقیقی مادی دنیا۔ وَاقِعًا یا فی الواقِع یا فی واقع الامر: عملی

مقاصد کے لئے، واقعی، سچ مچ، واقعہ یہ ہے، امر واقعہ یہ ہے، دراصل، درحقیقت، فی الواقع۔ بِـواقِـعِ: کی مقدار یا رقم کا۔ غیـرُ واقـعٍ: جھوٹ، غلط، غیر حقیقی، موہوم، (فعل) لازم۔ الامرُ الواقع: مکمل حقیقت۔ واقعُ الحال: واقعاتی معلومات، دریافتیں، واقعاتی شہادت، حقائق۔ الواقع انّ: یہ حقیقت ہے کہ، امر واقعہ یہ ہے کہ، دراصل، درحقیقت، فی الواقع۔ دُونَ الواقعِ بکثیرٍ: حقیقت سے بہت دور، سچ سے بہت دور۔ من واقِـعِ هـذه السجلاتِ: ان رجسٹروں میں درج معلومات کے مطابق۔ وَاقِـعَـة: واقعہ، حادثہ، سانحہ، وقوع، نئی صورتِ حال، حقیقت، افسوسناک حادثہ، لڑائی، جنگ۔ واقِعِیّ: حقیقی واقعی، اصلی، واقعیت پسندانہ، حقیقت پسندانہ، ایجابی، مثبت، قطعی، صریح۔ واقِـعِیَّة: حقیقت، حقیقت پسندی، حقیقت نگاری۔ مُوَقِّع: دستخط کرنے والا۔ مُوَقَّع: درج شدہ، ریکارڈ شدہ، رجسٹرڈ، دستخط شدہ۔ مُتَوَقَّع: توقع کیا گیا، امید کیا گیا، اندازہ کیا ہوا، فرض کردہ، ماننے کے قابل، قرین قیاس، غالب، اغلب، ممکن، قابل قبول، حقیقت سے قریب، واقعیت سے ملتا جلتا، بہت ممکن، غالبًا۔ من المتوقع ان: امید کی جاتی ہے کہ، توقع ہے کہ۔

وقف: وَقَفَ یقِفُ وَقْفًا و وُقُوفًا: ٹھہرنا، کھڑا ہونا، چپ چاپ کھڑا ہونا۔ ــــ فی المسألۃ: مسئلہ میں شک کرنا۔ ــــ القاری علی الکلمۃ: پڑھنے میں آخری حرف کو ساکن کرنا اور بعد کے حرف سے منقطع کرنا۔ ــــ علی الأمر: کو سمجھنا اور اس سے آگاہ ہونا۔ وَقَفَ وَقْفًا الدابّۃَ: جانور کو ٹھہرانا۔ ــــ هُ عن الشیء: کو سے روکنا، منع کرنا۔ ــــ الدارَ: گھر کو وقف کرنا۔ کہا جاتا ہے: وقفها له و علیه: اس نے گھر کو کیلئے وقف کر دیا۔ ــــ الأمر علی حضور فلان: معاملہ کو کسی کی موجودگی پر موقوف کرنا یا رکھنا۔ ــــ هُ علی الذنب: کو گناہ سے خبردار کرنا۔ ــــ القدرَ بالمیقاف: ہانڈی کے جوش کو ڈوئی سے کم کرنا۔ ــــ علیه: کا معائنہ کرنا۔ ــــ وَقِفَ النصرانیُّ: گرجا کر خدمت کرنا۔ وَقَّفَ هُ: کو کھڑا کرنا۔ ــــ الترسَ: ڈھال کے گرد لوہے کا حلقہ بنانا۔ ــــ المرأۃَ: عورت کو کنگن پہنانا۔ ــــ السرجَ: زین کی درستی کرنا۔ ــــ الحدیثَ: حدیث کو بیان کرنا۔ ــــ القاریَٔ: پڑھنے والے کو وقف کے موقعے بتانا اور وقف کی جگہیں سکھانا۔ ــــ الجیشُ: ایک دوسرے کے پیچھے یا بعد کھڑا ہونا۔ ــــ تِ المرأۃُ یدیها بالحناء: عورت کا ہاتھوں کو مہندی کے رنگ سے نقطے دار بنانا۔ ــــ الدابّۃَ: جانور کو ٹھہرانا۔ ــــ فلانًا علی ذنبهٖ: کو اس کے گناہ سے باخبر کرنا، مطلع کرنا۔ وَاقَفَ مُوَاقَفَۃً و وِقَافًا هُ فی الحرب او الخصومۃ: جنگ یا جھگڑے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا۔ ــــ هُ علی کذا: کو کسی بات پر ثابت قدم رہنے کے لئے کہنا۔ اَوْقَفَ هُ: کو ٹھہرانا، کھڑا کرنا۔ ــــ الدارَ: گھر کو وقف کرنا۔ ــــ الجاریۃَ: لڑکی کیلئے کنگن بنانا۔ ــــ عن الأمر: سے رک جانا۔ تَوَقَّفَ فی المکان: کسی جگہ میں ٹھہرنا۔ ــــ علی الامر: پر جم جانا، ثابت قدم رہنا۔ ــــ عن کذا: سے رک جانا، باز رہنا۔ تَوَاقَفَ القومُ فی الحرب: جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا، ملنا۔ اِتَّقَفَ: ٹھہرنا، کھڑا ہونا۔ اِسْتَوْقَفَ هُ: کو کھڑے ہونے کیلئے کہنا۔ الـواقِف جمـع وُقُف و وُقُوف (فا): کھڑا ہونے والا ــــ عند الفقهاء: اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، وقف کرنے والا۔ الوَقْف: حرف کو بعد کے حرف سے جدا کرنا، کنگن ــــ عند اهل العروض: (اصطلاح علم عروض میں) ساتویں متحرک حرف کو ساکن کرنا ــــ من الترس: ڈھال کے گرد لوہے یا سینگ کا حلقہ۔ ــــ جمع اوقاف و وُقُوف عند الفقهاء: (کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں) وقف (کرنا)۔ وقف شدہ چیز۔ الـوَقْـفَۃ: اسم مرۃ، ایک دفعہ رکنا، ٹھہرنا، کھڑا ہونا، شک ــــ من الترس: ڈھال کے گرد لوہے یا سینگ کا حلقہ۔ الوَقّـاف: دیر و سستی کرنیوالا، لڑائی سے رکنے والا۔ الـوَقّـافَۃ: ڈر کر رکنے اور آگے نہ بڑھنے والا۔ الـوَقِـیْـفَۃ: تھک کر کھڑا ہو جانے والا شکار، جگہ جو کتے اپنے مالکوں کیلئے مخصوص کر لیں۔ التَّـوْقِـیف (مص): جوئے کے تیر کا نشان، کنگن کی جگہ کی سفیدی، جانور کی ٹانگوں میں کنگن کی طرح کی دھاریاں یا سیاہ دھاریاں۔ الـمَوْقِف: ٹھہرنے کی جگہ۔ موقِفُ المرأۃِ المحجبۃ: پردہ نشین عورت کے ہاتھ، آنکھیں اور وہ اعضاء جن کو ظاہر کئے بغیر چارہ نہیں۔ الـمَوْقِفان (ع ا): دبر کے پاس کی دو رگیں۔ الـمَوْقِفَۃ: ٹھہرنے کی جگہ۔ الـمُوَقَّف (مفع) من الدواب: دونوں ہاتھوں پر گول داغوں والا جانور۔ ضَـرْعٌ مُوَقَّفٌ: تھن جس پر ڈوری کے نشان ہوں۔ رجلٌ مُوَقَّفٌ: تجربہ کار آدمی۔ رجلٌ مُوَقَّفٌ علی الحق: حق کا پیرو۔ دابّۃٌ مُوَقَّفَۃٌ: جانور جس کی ٹانگوں پر سیاہ لکیریں ہوں۔ الـمِیقاف (ا ع): بریک (brake)۔ ــــ و المِیقَف: لکڑی کی ڈوئی۔ الـمَوْقُوف: مفع ــــ عند الفقهاء: وقف شدہ۔

وَقَفَ یقِفُ وَقْفًا و وُقُوفًا: ٹھہرنا، رکنا، خاموش کھڑا ہونا ــــ فوقَ: پر قدم رکھنا، چڑھنا، پر اپنے دلائل کی بنیاد رکھنا، پر لگنا، مقرر ہونا ــــ عند یعلی: پر رکنا۔ ــــ الی: تک پہنچنا، پھیلنا، جانا ــــ: رکنا، ذرا رکنا۔ ــــ فی: میں یا پر ہچکچانا، تذبذب میں پڑنا، متامل ہونا، تأمل کرنا، پس و پیش کرنا، پر شکوک ہونا، ضمیر کی خلش ہونا ــــ: اٹھنا، کھڑا ہونا، پاؤں پر کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا (رونگٹے کھڑے ہونا، مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، مقابلہ میں جمے رہنا۔ ــــ علی: پر پوزیشن لینا۔ ــــ مع: کے پاس کھڑے ہو جانا، کی مدد کرنا، کا ساتھ نہ چھوڑنا، سے وفاداری کرنا، کی پشتبانی کرنا، کی پشت پر ہونا، کی مدد یا پشت پناہی کرنا۔ ــــ یفعل: کرتا جاری رکھنا، کرتے رہنا۔ ــــ وُقُوفًا علی: میں مشغول رہنا، لگا رہنا، پر توجہ کرنا، میں حصہ لینا، شریک ہونا، کا مطالعہ کرنا، کو پڑھنا، کو تن دہی سے کرنا، کی نذر کرنا، کیلئے خود کو وقف کرنا، مخصوص کرنا، میں دلچسپی لینا، دلچسپی رکھنا، کے متعلق دریافت کرنا، کے متعلق معلومات چاہنا، سے مطلع ہونا، کے متعلق جاننا، آگاہ ہونا، کو سمجھنا، کو جاننا، کا ادراک کرنا، سے واقف ہونا ــــ وَقْفًا هُ یا هُ: کو ٹھہرانا، روکنا۔ هُ: کو ختم کرنا، کا خاتمہ کرنا۔ هُ یاهٗ یابٗ یادون/عن: کو سے روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو سے باز رکھنا، کو سے مخفی رکھنا۔ هُ علی: کو پر منحصر کرنا، کو سے وابستہ کرنا، کو سے مشروط کرنا۔ وُقِفَ عـلـی: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، سے مشروط ہونا ــــ هُ علی: کو سے آگاہ کرنا، کو سے مطلع کرنا، کو کے بارے میں بتانا، مشورہ دینا، ہدایت دینا، حکم دینا، پر کی توجہ مبذول کرانا ــــ هُ عـلـی: کوئی چیز کسی (نیک کام وغیرہ) کے لئے دینا، عطا کرنا، عطیہ دینا، کو کیلئے وقف کرنا، کو کسی کو منتقل کرنا، کو کے حوالے کرنا، کو کے لئے وقف کرنا، نذر کرنا ــــ هُ ل: کو کیلئے مخصوص کرنا، تفویض کرنا، سونپنا، معین کرنا۔ وقف نَـفْسَـهُ ل: خود کو کیلئے نذر کرنا، وقف کرنا، کو مخصوص کرنا۔ قِفْ!: ٹھہرو! وقف اَمَـامَـه: کی مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا۔ وقف اِلی جانبه: کی طرفداری کرنا۔ وقف اِلی یَسارِه: کے بائیں ہاتھ کھڑا ہونا۔ وقف سدًّا دُونَ: کے راستہ میں حائل ہونا، کے راستہ میں کھڑا ہونا۔ لا یقف دُونَـهُ شیٔ: کوئی چیز اس کے راستہ میں حائل نہ ہوگی، کوئی چیز اس کو نہ روک سکے گی۔ وقف حائرًا: گومگو کی حالت میں ہونا۔ وقف

علی الحیاد: غیر جانبدار رہنا، بخت جانبداری برتنا۔ وقف علی ساقِ الجِدّل: کیلئے ہر کوشش کرنا، میں جوش وخروش سے حصہ لینا، کیلئے پوری مدد کرنا، ہر طرح کی کوشش کرنا۔ وقف علی شَفِیرِ الھلاك: تباہی کے کنارے پر ہونا۔ وقف عند حد: تک جانا، میں ہی رہنا۔ وقف فی وجه فلان: کا مقابلہ کرنا، کے خلاف ڈٹے رہنا۔ وقف موقفاً من: کے بارے میں موقف اختیار کرنا، رویہ اختیار کرنا۔ وقف موقفاً مِلْؤُهُ الحزْمُ: انتہائی ثابت قدمی کا موقف یا رویہ اختیار کرنا۔ وقف وقفاً: کوئی انداز اختیار کرنا۔ وقف وُقْفَةً: بالکل رک جانا، ایک رویہ اختیار کرنا۔ وَقفهُ عن العمل: کو نوکری سے معطل کرنا۔ وَقَّفَ ہ یا ھ: کو روک لینا، روک دینا، دیر لگانا، کو تھامے رہنا، سنبھالے رہنا، کو روکے رکھنا، یکا یک روکنا، ٹوکنا، کی نشو ونما کو روکنا یا کم کرنا، کی راہ میں روڑے اٹکانا، کے کام میں رکاوٹیں ڈالنا، کا راستہ روکنا، کو آہستہ کرنا (کوئی گاڑی وغیرہ) پارک کرنا، کو سیدھا کھڑا کرنا، کو اونچا کرنا، بلند کرنا، کو بالکل سیدھی حالت میں رکھنا۔ ہ: کو گرفتار کرنا۔ ہ عن: کو سے روکنا، باز رکھنا۔ ہ علی: کو سے آگاہ کرنا، مطلع کرنا۔ علی: کے فائدہ کے لئے یا کے حق میں وقف کرنا۔ وَقَّفَهُ عند حده: کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ اَوْقَفَ ہ: کو کھڑا کرنا، نصب کرنا۔ ہ یا ھ: کو روک لینا، روک دینا، کو گرفتار کرنا، کی راہ میں روڑے اٹکانا، کا راستہ روکنا، کے کام میں رکاوٹیں ڈالنا، کو آہستہ کرنا۔ ہ: کو روکنا، ملتوی کرنا، کو بند کرنا، چھوڑنا، ترک کرنا، کا سلسلہ منقطع کرنا، (تعلقات) توڑنا، (کوئی سرگرمی وغیرہ): کو ملتوی کرنا، میں سستی کرنا، تاخیر کرنا، کو لٹکائے رکھنا۔ ہ: کو گرفتار کرنا، قید کرنا۔ ہ: اخبار وغیرہ پر پابندی لگانا، کی اشاعت روک دینا، کو ممنوع قرار دینا۔ ہ علی: کو سے آگاہ کرنا، مطلع کرنا، کو کے متعلق بتانا، کی توجہ کی طرف مبذول کرنا۔ ہ علی: کو کسی نیک یا خیراتی مقصد کے لئے عطا کرنا، قائم کرنا، تخلیق کرنا۔ ہ علی: کسی چیز کو کسی کو منتقل کرنا، کو کی تحویل میں دینا، کو کچھ میراث کے طور پر دینا، کو کچھ تفویض کرنا، دینا یا سونپنا، کچھ کیلئے علیحدہ کرنا، معین کرنا، کو کیلئے وقف کرنا، مخصوص کرنا، نذر کرنا، کوششیں کیلئے صرف کرنا۔ اَوْقَفَ إهتمامَهُ علی: توجہ پر مرکوز کرنا۔ اوقف تنفیذ الحکم: سزا پر عمل درآمد روک دینا، فیصلہ روکنا، فیصلہ پر عملدرآمد روکنا، عارضی مہلت دینا۔ اوقف حرکةَ المرور: آمدورفت روکنا۔ اوقفه عن العمل: کو عہدہ سے ہٹانا، فارغ کرنا۔ تَوَقَّفَ: رکنا، ٹھہرنا، بالکل رک جانا، خاموش کھڑا ہونا، مذاکرات وغیرہ کا تعطل کا شکار ہو جانا۔ عن: کی سرگرمی میں رکنا، کو معطل کرنا، کی راہ میں حائل ہونا، کا سلسلہ منقطع کرنا، کچھ کرنے یا کسی چیز سے رک جانا، کو بند کرنا، چھوڑنا، ترک کرنا، سے باز رہنا۔ فی: میں ہچکچانا، پس وپیش کرنا، متذبذب ہونا۔ علی: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، انحصار کرنا، سے مشروط ہونا، پر مبنی ہونا، منحصر ہونا، مشتمل ہونا۔ تواقفا: ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، جنگ میں ملنا۔ اِسْتَوْقَفَ ہُ: کو رکنے کے لئے کہنا۔ ہ یا ھ: کو روکنا، کی راہ میں حائل ہونا، کو آہستہ کرنا، کی نشو ونما کو روکنا یا کم کرنا۔ ہ: کو ایک مختصر وقفہ دینا۔ نظرَہُ: سے نظریں چار ہونا، کی توجہ ابھارنا۔ الانتباہ: جاذب توجہ ہونا۔ کان وقفاً علی: کا پر مکمل طور پر متوسل ہونا۔ وقفا علی: تک محدود۔ وقفٌ اھلی، وقفٌ خاصٌ، وقفُ ذریةٍ: خاندانی وقف، پرائیویٹ وقف۔ وقف خَیریٌ و وقفٌ عامٌ: پبلک وقف۔ ناظرُ الوقف: وقف کا مہتمم۔ الاوقاف: نظام وقف، نا قابل انتقال جائدادوں کا وقف۔ وزارة الاوقاف: وزارتِ اوقاف۔ وقفُ إطلاقِ النار: جنگ بندی۔ وقفُ التنفیذ: عملدرآمد کا التواء۔ اَکَلَ خبزَ الوقف: روزی کمانے کا آزاد ذریعہ رکھنا، بے کام کی نوکری کرنا۔ وِقْفِی: وقف کا، وقف کے متعلق۔ وَقْفِیَةٌ: وقف کا نظام، مذہبی اوقاف کی فہرست، نا قابل انتقال جائدادوں کے وقف کی فہرست، وقف کا اصل منشور۔ وُقْفة جمع وقفات: کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کا انداز، حالت، انداز، ٹھہرنے کی جگہ، پڑاؤ، رکنا، مختصر وقفہ، فل سٹاپ، مستقر، راستہ میں ٹھہرنے کی جگہ، حج کے دوران عرفات پر ٹھہرنے کی جگہ، رویہ، موقف، پالیسی، مذہبی تہوار سے پہلے کی شام یا دن۔ نیز یوم الوقفة: وقفة العید الصغیر: عید الفطر سے پہلا دن، یکم شوال کو افطار کا جشن۔ وقفة العید الکبیر: عید الاضحیٰ سے پہلا دن، دس ذوالحجہ کو قربانی کا جشن۔ وَقَّاف: نگران، ناظم، محافظ۔ مَوْقِف جمع مَوَاقِف: رکنے کی جگہ، کیب (Cab) وغیرہ کے رکنے کی جگہ، بس سٹینڈ، ریلوے سٹیشن، پارک کرنے کی جگہ، سٹاپ، جگہ، موقع، سین، سینری، موقف، اصلی مقام، رائے، رویہ۔ موقفٌ حربی: سٹریٹجک صورت حال۔ موقف سیاسی: سیاسی صورت حال۔ موقفٌ عَدائی: معاندانہ رویہ، مخالف نقطہ نگاہ۔ موقفُهُ من: کے متعلق یا کے بارے میں اسکا موقف یا رویہ۔ توقیف: اٹھانا، نصب کرنا، کھڑا کرنا، گرفتاری، قید، نظر بندی، حراست، پارک کرنا، پارکنگ۔ ایقاف: اٹھانا، کھڑا کرنا، نصب کرنا، گرفتاری، قید، نظر بندی، حراست، روکنا، کم کرنا، چیک کرنا، حائل ہونا، رکاوٹ، کام کا تعطل، خاتمہ، ترک، انقطاع، التواء، تاخیر، رہنا، قیام، روک تھام، انسداد، خلل، رکاوٹ، مداخلت، دخل اندازی، عہدہ سے علیحدگی، ڈیوٹی سے معطلی، نوٹس، اطلاع، اعلان۔ ایقاف التنفیذ: التوائے تعمیل۔ ایقاف الحکم: فیصلہ کی روک تھام۔ ایقاف الدعوی: کارروائی کی روک تھام۔ ایقاف الدفع: ادائیگی میں تاخیر، مہلت، قرضے کی ادائیگی میں مہلت۔ ایقافُ العمل: کام کا تعطل۔ تَوَقُّف: وقفہ، التواء، توقف، رکنا، ٹھہراؤ، ذرا رکنا، ہچکچاہٹ۔ علی: پر انحصار، دارومدار۔ التوقف عن الدفع: ادائیگی میں تعطل۔ واقف: رکنے والا، خاموش کھڑا ہونے والا، بے حرکت، ساکن، بے حس و حرکت، آرام کرنے والا، کھڑا، بالکل سیدھا۔ علی: سے واقف، سے شناسا۔ تماشائی، وقف کرنے والا۔ علی الوَاقِف: فوراً، فی الفور، وہیں، اسی وقت، اسی دم، موقع پر موجود۔ هَبَّ وَاقِفاً: اپنے پاؤں پر اٹھنا، سو کر اٹھنا، اٹھنا۔ مَوْقُوف: گرفتار کیا ہوا، روکا ہوا، معطل کیا ہوا، منقطع کیا ہوا، بات کاٹا ہوا، کلام منقطع کیا ہوا، تاخیر کیا ہوا، ملتوی کیا ہوا، موقوف رکھا ہوا، تاخیری، گرفتار کیا ہوا، قید کیا ہوا، حراست میں لیا ہوا، زیر حراست شخص، قیدی، ڈیوٹی سے معطل، عہدہ سے ہٹایا ہوا، وقف کے طور پر قائم شدہ، وقف کے ذریعے ہبہ شدہ، نا قابل انتقال، عطیہ شدہ، عطا شدہ، قائم شدہ، نذر کردہ، وقف شدہ۔ علی: کیلئے مخصوص کیا ہوا، پر منحصر، سے وابستہ، سے مشروط، پر مبنی، پر ٹیک لگایا ہوا۔ معرض التواء میں، کھٹائی میں پڑا ہوا۔ الموقوف علیه: وقف سے فائدہ اٹھانے والا۔ الاراضی الموقوفة: وقف شدہ جائیدادیں۔ لاعبٌ موقوف: نااہل قرار دیا گیا کھلاڑی۔ موقوفٌ قیدَ المحاکمة: تحقیقات تک قید کیا ہوا۔ مُتَوَقِّف علی: پر منحصر، سے مشروط۔

وقل: وَقَلَ یَقِلُ وَقْلاً: ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا۔ وَکَوَقَّلَ فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔ الوَقْل (مص) واحد وَقْلَة جمع اَوْقَال (ن): کوگل

کا درخت یا اس کا پھل۔ الوَقَل: پتھر، شاخوں کے ٹھنٹھ جو چڑھنے والے کو چڑھنے میں مدد دیں۔ ــــ والوَقِل و الوُقُل من الخیل: چڑھنے والا گھوڑا۔ الوَقْلَة جمع وُقُول: گوگل کے پھل کی گٹھلی۔ کہا جاتا ہے: رَجُل وَقْلَةَ الرأس: بہت چھوٹے سر کا آدمی۔ فرسٌ تَوَقْلَةٌ: پہاڑ پر بخوبی چڑھنے والا گھوڑا۔

وقم: ۱۔ وَقَمَ یَقِمُ وَقْماً الدابَّةَ: لگام کھینچ کر جانور کو ٹھہرانا۔ ــــ القِدرَ: ہانڈی کا ابال ٹھنڈا کرنا۔ ــــ وَقْماً و وَقَّمَ و اَوْقَمَ الرجُلَ: کو مغلوب کرنا، حاجت سے بری طرح روک دینا۔ وُقِمَت الأرضُ: زمین کی گھاس کا چر لیا جانا اور لتاڑا جانا۔ تَوَقَّمَ الرجُلَ: کو دھمکی دینا۔ ــ الکلامَ: کلام یاد کرنا۔ ــ الشیءَ: کا ارادہ کرنا۔ ــــ الصیدَ: شکار مارنا۔ الوِقام: کوڑا، تلوار، لاٹھی، رسی۔ المَوْقُوم (مفع): غمگین، حاجت سے روکا ہوا۔

۲۔ تَوَقَّمَ فیه: کو طول دینا۔

وقن: اَوْقَنَ اِیْقَاناً و تَوَقَّنَ: پرندے کا شکار اس کے گھونسلے سے کرنا۔ تَوَقَّنَ الوعلُ فی الجبل: پہاڑی بکرے کا پہاڑ پر چڑھنا۔ الوُقْبَة و الأُقْنَة جمع وُقُنَات و اُقُنات: گھونسلہ۔ المَوْقُونَة من الجواری: پردہ نشین لڑکی۔

وقه: وَقَهَ و وَقِهَ یَقِهُ وَقْهاً و اَیْقَهَ و اسْتَیْقَهَ لفلان: کی اطاعت کرنا۔ تَیَقَّهَ لفلان: کی اطاعت کرنا۔ ــــ عنه: سے باز رہنا۔ الوَاقِه: گرجہ کا ناظم (بعض کے نزدیک صحیح وَاقِہ ہے)۔ الوَقْهَة: اطاعت فرمانبرداری۔

وقی: ۱۔ وَقَی یَقِی وِقَایَةً و وَقْیاً و وَاقِیَةً فلاناً: کی حفاظت کرنا، کو اذیت سے بچانا۔ کہا جاتا ہے وَقَاهُ اللّٰهُ السوءَ و مِن السوءِ: اللہ تعالیٰ اسے برائی سے بچائے۔ ــــ وَقْیاً و وُقِیّاً الأمرَ: کسی امر کو درست کرنا۔ وَقْیاً و وَقِیَ یَوْقَی وَقِیَ الفرسُ من الحفا: گھوڑے کے کھر کا گھسنا۔ تَقَی یَتْقِی تُقًی و تِقَاءً و تَقِیَّةً: پرہیزگار رہنا۔ وَقَّی فلاناً: کی حفاظت کرنا، کو اذیت سے بچانا۔ اِتَّقَی اِتِّقَاءً: پرہیزگار رہنا۔ اتَّقَیْنَا بِه: ہم نے دشمن سے بچنے کیلئے اس کی آڑ لی۔ اسے اپنے آگے رکھا دشمن کا اس کے ذریعے سامنا کیا۔ ــــ اِتِّقَاءً و تَوَقَّی تَوَقِّیاً فلاناً: سے ڈرنا، خوف کھانا، سے بچنا۔ کہا جاتا ہے: ما اَتْقَاهُ لِلّٰهِ!: وہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرنے والا ہے۔ فرسٌ واقٍ: کھر میں تکلیف کی وجہ سے چلنے سے ڈرنے والا گھوڑا۔ سرجٌ واقٍ: زخمی نہ کرنے والی زین۔ الوَاقِیَة (مص) جمع وَاقِیات و اَوَاق: واقی کا مونث۔ الوَقَاء و الوِقَاء و الوَقَایَة و الوِقَایَة و الوُقَایَة: بچنے کا ذریعہ۔ رَجُلٌ وَقَّاءٌ: بہت پرہیزگار۔ سرجٌ وَقِیٌّ: زخمی نہ کرنے والی زین۔ التُقَاة جمع تُقًی: پرہیزگاری۔ التَقْوَی: پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ سے خوف اور اس کی اطاعت میں عمل۔ التَقِی جمع اَتْقِیاء و تُقَوَاء و المُتَّقِی: صاحب تقوی، متقی، پرہیزگار۔ المُوَقَّی (مفع): بہادر۔

۲۔ الوَاقِی و الوَاقِ (ح): کوا، بعض کے نزدیک شکرا، کٹھ پھوڑا (پرندہ)۔ الاَوْقِیَة جمع اَوَاقِی و اَوَاق و الوُقِیَّة جمع وُقِیّ و وَقَایَا: رطل کا بارہواں حصہ۔

○ وَقَی یَقِی وَقْیاً و وِقَایَةً ه: کی حفاظت کرنا، کو محفوظ کرنا، نقصان سے بچانا، بگڑنے نہ دینا، محفوظ کرنا، برقرار رکھنا، کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔ ــ ه: کی سے حفاظت کرنا، کو سے پناہ دینا، کو سے بچانا، کو سے بچائے رکھنا، کو سے محفوظ رکھنا، کو سے روکنا، کی سے حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا۔ ــــ ه: (خطرہ) سے بچنا، خطرہ دُور کرنا۔ تَوَقَّی و اِتَّقَی ه: سے بچنا، سے چوکس، چوکنا یا ہوشیار ہونا، سے بچنے کی کوشش کرنا، سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کے خلاف پورا بندوبست کرنا۔ اِتَّقَی اللّٰهَ: اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اتقی اللّٰهَ فی حق الشیءِ: کے بارے میں خوف اللہ تعالیٰ کرنا، یعنی خوف خدا کی وجہ سے کسی چیز کو نرمی دلی سے برتنا یا کم برتنا، یا کی پروا کرنا یا کو ضمیر کا مسئلہ بنانا۔ وَقْی: حفاظت۔ وَقَاء و وِقَاء: حفاظت، احتیاط، روکنا۔ وِقَایَة: حفاظت، احتیاط، احتیاطی تدبیر، پیش بندی، حفظ ماتقدم، دور کرنا، باز رکھنا، تدارک کرنا، بال بال بچنا۔ ــ من: کے خلاف دفاع، احتیاطی علاج۔ الوقایة من الغارات الجوّیة: ہوائی حملوں سے بچاؤ۔ مُعَدَّات الوقایة: حفاظتی آلات یا چیزیں۔ وِقَایَة: حفاظتی کور، پوشش۔ وِقَائی: احتیاطی۔ الطبُّ الوقائی: احتیاطی دوا یا علاج۔ وَقِی: بچانے والا، محافظ، محفوظ رکھنے والا، سرپرست۔ تَقْوَی: تقوی، خداترسی، پارسائی، پرہیزگاری۔ تَقِی جمع اَتْقِیَا: خداترس، متقی، اللہ والا، پارسا، دیندار، خداپرست، عابد، غازی، پرہیزگار۔ تَقِیَّة: خوف، چوکسی، خبرداری، ہوشیاری، احتیاط، مصلحت بینی، عاقبت اندیشی، تقیہ (زمانہ سازی، مکاری، ریاکاری)۔ واقٍ: حفاظت کرنے والا، محفوظ کرنے والا، امتناعی، انسدادی، مانع، دافع، محافظ، وہ چیز جو کسی چیز کو بگڑنے نہ دے، سرپرست، بیماری کو روکنے والی دوا۔ واقٍ من الریح: ہوا سے محفوظ رکھنے والا۔ دِرْعٌ واقٍ: حفاظتی زرہ۔ صَفْحَةٌ وَاقِیَة: کتاب کے شروع یا آخر کا ورق، ڈسٹ کور، جیکٹ، لپیٹنے کا کاغذ۔ مِظَلَّة واقیة: پیراشوٹ (parachute)۔ مِعْطَفٌ واقٍ: برساتی (rain coat)۔ قِنَاعٌ واقٍ: گیس ماسک (gas mask)۔ وَاقِیَة: حفاظت، پناہ، ڈھال، مانع، دافع، انسدادی تدبیر، وہ چیز جو کسی چیز کو بگڑنے نہ دے۔ مُتَّقٍ: خداترس، متقی، اللہ والا، پارسا، دیندار، خداپرست، پرہیزگار۔ وِقِیه و وُقِیَة: وزن کا ایک پیمانہ جو شام، مصر، بیروت اور یروشلم میں رائج ہے۔ مصر میں ۱/۱۲ رطل یا ۳۷ گرام، الپو میں ۳۲۰ گرام، بیروت میں ۲۱۳،۳۹ گرام اور یروشلم میں ۲۴۰ گرام کے برابر ہے۔

وک: وَکْوَكَ الحمامُ: کبوتر کا کوکو کرنا۔ ــ فلانٌ من الحرب: لڑائی سے بھاگ جانا۔ تَوَکْوَكَ الرجُلُ: لڑھکتے ہوئے چلنا۔ ۲۔ الوَکْوَاك: بزدل، چلنے میں لڑھکنے والا۔

وکا: تَکِیَ یَتْکَأُ تُکْأً الرجُلُ: بمعنی اِتَّکَأَ۔ وَاکَأَ مُوَاکَأَةً و وِکَاءً علی یدیه: دعا کیلئے دونوں ہاتھ اٹھانا۔ ۲۔ اَوْکَأَ اِیکَاءً: کیلئے تکیہ لگانا۔ ــ علی الشیءِ: کا سہارا لینا، پر ٹیک لگانا۔ ۲۔ اَتْکَأَ اِتْکَاءً: کو جھکانا، کے نیچے ٹیک لگانے کیلئے تکیہ رکھنا۔ تَوَکَّأَ علی عصاه: لاٹھی کا سہارا لینا، لاٹھی پر ٹیک لگانا۔ اِتَّکَأَ اِتِّکَاءً علی السریر: تخت پر سہارا لے کر بیٹھنا، پیٹھ یا پہلو کسی چیز پر رکھنا۔ ــ علی عصاه: چھڑی پر سہارا لینا۔ ــــ القومُ عنده: کے ہاں کھانا کھانا۔ التُکَأَة: وہ چیز جس کا سہارا لیا جائے، جیسے چھڑی کمان وغیرہ، سست آدمی جو بہت سہارا لے۔ الاِتِّکَاءُ (مص)۔ ــ عند اهل العروض: اہل عروض کی اصطلاح میں: حشو و فضول۔ المُتَّکَأ جمع مُتَّکَآت: وہ چیز جس کا سہارا لیا جائے۔

○ تَوَکَّأَ و اِتَّکَأَ علی: کا سہارا لینا، سے یا پر ٹیک لگانا، کرسی وغیرہ پر تکیہ لگا کر بیٹھنا یا لیٹنا۔ تُکَأَة: لاٹھی، سہارا، آڑ، ٹیک، ٹیکن، آسرا (کرسی وغیرہ کی) پشت، کاہل، سست، کام چور۔ تَوَکُّؤ: سہارا لینا، ٹیک لگانا، جھکنا، ترچھا ہونا، تکیہ لگانا، تکیہ لگا کر بیٹھنا یا لیٹنا۔ اِتِّکَاءٌ: بمعنی تَوَکُّؤ۔ مُتَّکَأ جمع مُتَّکَاءات: سہارا، آڑ، ٹیک، ٹیکن، آسرا، تکیہ، گدی، صوفہ، کوچ۔

وکب: ۱۔ وَکَبَ یَکِبُ وُکُباً: سیدھا کھڑا ہونا۔ وَکِبَ یَوْکَبُ وَکَباً و وَکَّبَ التمرُ: کھجور کا پک کر سیاہ ہونا۔ اَوْکَبَة: جانور کی ٹانگ۔

۲۔ وَکَبَ یَکِبُ وُکُباً علی الأمر: کو کرتے رہنا، پر جما رہنا، ڈٹا رہنا، قائم رہنا، کو متواتر یا پے در پے کرتے رہنا، کو بڑی محنت اور کوشش سے کرنا، پر ثابت قدم رہنا۔ ــــ وُکُباً و وُکوباً و وَکَباناً: آہستگی سے چلنا۔ وَکَبَ النَاقَۃَ: اونٹنی کے تھن کو باندھنے کی ڈوری کو سختی سے نہ باندھنا۔ وَاکَبَ مُوَاکَبَۃً علی الامر: کو کرتے رہنا، پر ثابت قدم رہنا۔ ــــ الموکب: جلوس کے ساتھ چلنا۔ اَوْکَبَ اِیکاباً: جلوس کے ساتھ رہنا۔ ۔ علی الامر: کو کرتے رہنا، پر ثابت قدم رہنا۔ ۔ الطائرُ: پرندے کا اڑنے کیلئے تیار ہونا یا بیٹھنے کے لیے پر پھڑپھڑانا۔ الوَکَاب: بہت غم کرنے والا۔ ظبیۃ وَکوبٌ: ڈار کے ساتھ رہنے والا ہرن۔ المَوکِب جمع مَوَاکِب: سواروں یا پیدل چلنے والوں کی جماعت، جلوس (سوار یا پیدل لوگوں کا) اونٹوں پر سوار لوگ۔

۳۔ وَکِبَ یَوْکَبُ وَکَباً و وَکَبَ الثوبُ: کپڑے کا میلا ہونا۔

۴۔ اَوْکَبَ اِیکاباً ہٗ: کو غضبناک کرنا۔

☼ وَکَبَ یَکِبُ وَکْباً و وُکُوباً و وَکَبَاناً: آہستہ چلنا، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا۔ وَاکَبَ ہٗ: کے ساتھ جانا، کا ہمرکاب یا ہم سفر ہونا، کی معیت میں جانا، کے ہمراہ ہونا۔ ــ ہٗ یا ہٗ حفاظت کیلئے کسی کے ہمراہ جانا، کا ہم راہ ہونا۔ ــــ ہٗ: کی حفاظت کیلئے ساتھ چلنا، حفاظتی فوجی دستہ کے طور پر کے ساتھ جانا۔ مَوکِب جمع مَوَاکِب: پریڈ، شاندار جلوس، جلوس، سوار حفاظتی دستہ، بدرقہ، نوکر چاکر، خدم وحشم، ہمرکاب لوگ، فاتح سپہ سالار کا جلوس۔ موکبُ المشاعیل: مشعل بردار جلوس۔ موکبُ الجنازۃ: جنازہ۔ مُوَاکَبۃ: فوجی حفاظتی دستہ، حفاظت سے پہنچانا، حفاظت کا فرض۔

وکت: ا۔ وَکَتَ یَکِتُ وَکْتاً: چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔ ــ ت الدابۃُ: جانور کا جلدی جلدی چلنا۔ الوَکَاب: سستی کی وجہ سے چھوٹے قدم رکھنے والا۔ الوَکِیت: چغلخوری، سازش۔

۲۔ وَکَتَ یَکِتُ وَکْتاً الکتابَ: کتاب میں نقطے لگانا۔ ــــ فی الشیء: پر نشان لگانا۔ وَکَّتَ تَوْکِیتاً البسرُ: پکنے والی کھجور کا داغدار ہونا۔ الوُکْتَ: تھوڑی چیز۔ الوُکْتَۃ: داغ، تھوڑا سا نشان۔

۳۔ وَکَتَ یَکِتُ وَکْتاً القَدَحَ: پیالہ بھرنا۔ وَکَتَ القِربۃَ: مشک بھرنا۔ المَوکُوت (مفع): غمگین، رنجیدہ۔

وکح: ا۔ وَکَحَ یَکِحُ وَکْحاً ہٗ برِجْلِہِ: کو پاؤں سے زور سے روندنا۔ اَوْکَحَ اِیکاحاً: منع کرنا، سائل سے سختی کرنا۔ ۔ فی الحفر: کھودنے میں پتھر یا سخت جگہ تک پہنچنا۔ ۔ العطیّۃَ: عطیہ منقطع کرنا۔ اِسْتَوْکَحَ اِستیکاحاً الفراخُ: چوزوں کا موٹا ہونا۔ کہا جاتا ہے: سَألَہٗ فاستَوکَحَ: اس نے اس سے مانگا تو اس نے ہاتھ روک لیا اور کچھ نہ دیا۔ الوُکْحُ: موٹے چوزے۔ مفرد الوَاکِح یا الوُکُوح۔ الأَوْکَح: پتھر، سخت جگہ۔

۲۔ اَوْکَحَ اِیکاحاً: تھکنا۔ ۔ من الأمر: سے رکنا۔

۳۔ الأَوْکَح: مٹی۔

وکد: ا۔ وَکَدَ یَکِدُ وُکُوداً بالمکان: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ ــــ وَکْداً الشیءَ: کا قصد کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَکَدَ وَکْدَہٗ: اس نے اس کا قصد کیا۔ ۔ الأمرَ: کی مشق کرنا۔ ۔ وَکْداً و وَکَّدَ و أَوْکَدَ و اَکَّدَ و آکَدَ العھدَ او السرجَ: معاہدہ کو پکا کرنا، زین کو مضبوط کرنا (واؤ سے زیادہ فصیح ہے)۔ تَوَکَّدَ و تَأَکَّدَ: مضبوط ہونا۔ الوَکْد (مص): مراد، قصد۔ الوُکْد: سعی وکوشش۔ کہا جاتا ہے: مازال ذلک وُکْدِی: وہ چیز ابھی تک میرا عمل ہے، یہ کام میں اب بھی کرتا ہوں۔ الوِکَاد و الإکاد: وکائد کا واحد: رسی یا تسمہ جس سے دودھ دوہتے وقت گائے کی ٹانگیں باندھی جاتی ہیں۔ الوَکِید و الأکِید: سخت، مضبوط، ثابت۔ الأوْکَد و الآکَد: زیادہ ثابت قدم۔ التَوَاکِید و التآکِید و المَیَاکِید: زین کے اگلے حصہ کو باندھنے کے تسمے۔ المُتَوَکِّد: کام کے لئے مستعد۔

۲۔ الوَکْد: غم۔

☼ وَکَّدَ ہٗ: کو باندھنا، کی توثیق کرنا، تصدیق کرنا، کا ثبوت مہیا کرنا، کیلئے حقائق پیش کرنا، کو مستحکم کرنا، پکا کرنا، کو دعوے سے کہنا، کا باضابطہ اعلان کرنا، کی یقین دہانی کرنا، کے پرزور دعوے کرنا، کو وثوق سے کہنا، زور سے کہنا۔ تَوَکَّدَ: موثق ہونا، موکد ہونا، مصدق ہونا، ثابت ہونا، مستحکم ہونا، دعوے سے کہا جانا، وثوق سے کہا جانا، زوردے کر کہا جانا۔ ــ من: (حقیقت) کی تحقیق کرنا، (حقیقت) کا پتہ چلانا، کے متعلق اپنی تسلی کرنا، کا پورا بندوبست کر لینا، کا یقین کرنا۔ وَکْد: خواہش، آرزو، ارادہ، مقصد، کوشش، تمنا۔ وَکِید: توثیق یا تصدیق شدہ، ثابت شدہ، مستحکم کیا ہوا، یقینی، قطعی، مثبت۔ تَوکِید جمع تَوکِیدات و تَواکِید: تصدیق، توثیق، (حلفی) اظہار، یقین دہانی، بات جتانا، دعویٰ، تاکید، زور، زائد الفاظ، بھرتی کے الفاظ۔ مُوَکَّد: یقینی، قابل اعتبار، واضح قطعی، غیر مبہم۔ مُتَوَکِّد: یقینی، واضح قطعی، غیر مبہم، یقین دلایا ہوا، قائل۔

وکر: ا۔ وَکَرَ یَکِرُ وَکْراً و وُکُوراً الطائرُ: پرندے کا اپنے گھونسلے میں آنا۔ وَکَرَ و اِتَّکَرَ الطائرُ: پرندہ کا گھونسلہ بنانا۔ ــــ الوَکْر (مص) جمع اَوْکُر و اَوْکار و وُکُور: پرندے کا گھونسلہ۔ الوَکْرَۃ جمع وُکَر: پرندے کا گھونسلہ۔

۲۔ وَکَرَ یَکِرُ وَکْراً و وَکَّرَ و اَوْکَرَ الإناءَ: برتن کو بھرنا۔ تَوَکَّرَ الصبیُّ: بچہ کا شکم سیر ہونا۔ ۔ الطائرُ: پرندے کے پوٹے بھرنا۔ کہا جاتا ہے: شرب حتی توکّر: اس نے سیر ہو کر پیا۔ الوَکْرَۃ جمع وُکَر: اسم مرۃ۔

۳۔ وَکَرَ یَکِرُ وَکْراً و وُکُوراً الظبیُ: ہرن کا کودنا۔ الوَکْر و الوَکَر: دوڑ کی ایک قسم۔ الوَکَرَی: دوڑ کی ایک قسم۔ ناقۃ وَکَرَی: تیز رفتار اونٹنی۔

۴۔ وَکَرَ یَکِرُ وَکْراً ہٗ: کی ناک پر مکا مارنا۔

۵۔ الوَکِیرَۃُ و الوَکْرۃ و الوَکِیر و الوَکِیرۃ: عمارت کے اختتام پر دی جانے والی دعوت۔

☼ وَکْر جمع اَوْکار و وُکُور: گھونسلہ، پرندہ کا گھونسلہ، عقاب کا نشیمن، شاہین کا بسیرا، رہائش، سکونت، رہنے کی جگہ، مسکن، قیام گاہ، فرودگاہ، پناہ گاہ، گوشہ تنہائی، خلوت، ہوائی جہازوں کیلئے چھپر۔ وکر اللصوص: ڈاکوؤں کا اڈا۔ وُکْرَۃ جمع وُکَر: پرندے کا گھونسلہ۔

وکز: ا۔ وَکَزَ یَکِزُ وَکْزاً ہٗ: کو ہٹانا، مکہ مارنا۔ ــ ہٗ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔ ــ الرمحَ فی الارض: زمین پر نیزہ گاڑنا۔ ۔ انفَہٗ: کی ناک توڑنا۔ الوَکّاز: کے باز۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ وَکّازٌ لکّاز کانہ حیّۃ نکّازٌ: فلاں شخص بڑا کے باز ہے گویا کہ وہ زہریلا سانپ ہے۔

۲۔ وَکَزَ یَکِزُ وَکْزاً فلانٌ: دوڑنا۔ تَوَکَّزَ للامر: کام کیلئے تیار ہونا۔

۳۔ وَکَزَ یَکِزُ وَکْزاً القربۃَ: مشک بھرنا۔ تَوَکَّزَ من الطعام: شکم سیر ہونا۔

۴۔ تَوَکَّزَ علی عَصَاہُ: لاٹھی پر سہارا لینا۔

۵۔ ناقۃ وَکَزَی: کوتاہ قد اونٹنی۔

☼ وَکَزَ ہٗ: گھوڑے کو ایڑ لگانا، مہمیز کرنا۔ ــ ہٗ ب: کو سے چیرنا، چھیدنا، کو سے مبہوت کر دینا۔

وکس: وَکَسَ یَکِسُ وَکْساً الشیءُ: کم ہونا۔ ــ

الشیءَ: کوکم کرنا، گھٹانا۔ وُکِسَ التاجرُ فی تجارته و اُوکِسَ فیها فوُکَسَ و اُوکَسَ مالُهٗ: تاجر کا تجارت میں نقصان اٹھانا اور مال تجارت جاتا رہنا۔ وَکَّسَ الشیءَ: کوگھٹانا۔۔ فلاناً: کوجھڑکنا، ڈانٹنا۔ الوَکْس (فلك): چاند کی وہ منزل جہاں اس کو گہن لگتا ہے، چاند کا منحوس ستارہ میں آنا (کہا جاتا ہے: هٰذه لیلةُ الوَکْس یہ چاند کے منحوس ستارہ میں آنے کی رات ہے)، زخم کی پیپ۔ کہا جاتا ہے: بَرَأَت الشجّةُ علی وکسٍ: سر کا زخم بھر تو گیا مگر پیپ اندر ہی رہی۔ لاوَکْسَ ولا شَطَطَ: نہ کم نہ زیادہ۔ الاَوْکَس: زیادہ ناقص۔ رجلٌ اَوْکَس: حقیر، کمینہ۔ بدقسمت۔

○ وَکَسَ یَکِسُ وَکْسًا: قیمت میں گرنا، نرخ گرنا، مندا ہوجانا۔۔ ہ: کی قدر و قیمت کم کرنا، گھٹانا۔ وُکِسَ (کاروبار میں) نقصان اٹھانا۔ وَکَّسَ ہ: کی قیمت کم کرنا، گھٹانا۔ وَکْس: قدر و قیمت کا گرنا، کم ہونا، کم قدری، کم قیمت نقصان۔ باعَ بالوَکْس: نقصان اٹھا کر بیچنا۔

وکظ: وَکَظَ یَکِظُ وَکْظًا و واکَظَ ہٗ: کو ہٹانا، کو کنارے پر کرنا، ایک طرف کرنا۔۔ علی الأمر: کو متواتر کرنا، کو کرتا رہنا۔ تَوَکَّظَ علیه الامرُ: پر معاملہ پیچیدہ اور مشکل ہوجانا۔

وکع: ۱۔ وَکَعَ یَکَعُ وَکْعًا ہٗ: کو ڈسنا، سرزنش کرنا۔۔ انفَهٗ: کی ناک توڑنا۔۔ الشاۃ: بکری کے بچہ کا اپنی ماں کا دودھ پیتے وقت تھن پر سر مارنا۔

۲۔ وَکِعَ یَوْکَعُ وَکَعًا: پاؤں سے کج پنجے والا ہونا صفت اَوْکَع مونث: وَکْعاء۔ وَکُعَ یَوْکُعُ وَکاعةً الشیءُ: سخت ہونا، مضبوط ہونا۔ صفت: وَکِیع۔ اَوْکَعَ الرجلُ: دشوار کام لانا۔۔ الشیءَ: کو مضبوط کرنا۔۔ تِ القدمُ: قدم کا موٹا اور سخت ہونا۔ الأمرُ: مضبوط (مستحکم و سخت ہونا)۔۔ السقاءَ: مشک کو مضبوط کرنا۔ اتَّکَعَ الشیءُ: مضبوط ہونا۔ اِسْتَوْکَعَ الرجلُ: مضبوط معدے والا ہونا۔۔ تْ معدتُهٗ: کا معدہ مضبوط ہونا۔۔ ت الفراخُ: چوزے کا موٹا ہونا۔ الوَکِیع: مضبوط، سخت، آگے چلنے والی بکری۔ امرٌ وَکِیعٌ بہ مستحکم کام، معاملہ وغیرہ۔ المِیکَع: مضبوط، سخت، مستحکم تھیلا۔ المِیکَعَة جمع مِیکَع: ہل کا پھل۔

۳۔ وَکُعَ یَوْکُعُ وَکاعةً: کمینہ ہونا۔ اَوْکَعَ الرجلُ: کم بھلائی والا ہونا۔ کہا جاتا ہے وَکِیعٌ لَکِیعٌ و وُکُوعٌ لَکُوعٌ: کمینہ آدمی۔ الاَوْکَع: کمینہ، احمق۔

○ وَکُعَ یَوْکُعُ وَکاعةً: سخت ہونا، مضبوط ہونا، موٹا تازہ، ہٹا کٹا یا قوی ہیکل ہونا۔ مِیکَعَة: ہل کا پھل، پھالی۔

وکف: ۱۔ وَکَفَ یَکِفُ وَکْفاً و وَکِیفاً و وُکوفاً و وَکَفاناً و تَوْکافاً الدمعُ و نحوُهٗ: آنسو ٹپکنا۔۔ البیتُ: گھر کی چھت ٹپکنا۔۔ وَکْفاً و وَکِیفاً ت العینُ الدمعَ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اَوْکَفَ اِیکافاً الدمعُ او البیتُ: آنسو کا یا گھر کی چھت ٹپکنا۔ تَوَکَّفَ السطحُ: چھت کا ٹپکنا۔ البیتُ: گھر کی چھت کا ٹپکنا۔ اِسْتَوْکَفَ اِسْتِیکافاً الماءَ: پانی ٹپکانا، جاری کرانا۔ الواکِف (فا): موسلا دھار بارش۔ الوَکْف جمع اَوْکاف: پسینہ۔ سحابٌ وَکُوف: ہلکا ہلکا برسنے والا بادل۔

۲۔ وَکِفَ یَوْکَفُ وَکَفاً الرجلُ: گناہ کرنا، ظلم و ناانصافی کرنا۔ وَکَّفَ الحمارَ: گدھے پر پالان ڈالنا۔۔ الوِکافَ: پالانا بنانا۔ أَکَّفَ و آکَفَ الحمارَ: گدھے پر پالان ڈالنا۔ اَوْکَفَ اِیکافاً ہٗ: کو گناہ میں ڈالنا۔ تَواکَفَ: انحراف کرنا۔ الوَکَف (مص) جمع اَوْکاف: عیب، برائی (کہا جاتا ہے: هٰذا الأمر وَکَفٌ علیك: یہ بات تمہارے لئے عیب ہے) فساد، کمزوری، بوجھ، شدت، دامن کوہ۔ کہا جاتا ہے انی لأخشی علیك و کفَ فلان: میں تجھ پر فلاں شخص کے ظلم و جور سے ڈرتا ہوں۔ لیس علیك فی هٰذا الامر وکفٌ: تم پر اس معاملہ میں کوئی عیب نہیں۔ فلانٌ علی وکفٍ من حاجته: فلاں شخص اپنی ضرورت کو نہیں جانتا۔ الوِکَف و الاِکاف جمع وُکُف: عرق گیر، پالان۔

۳۔ واکَفَ مُواکَفةً الرجلَ فی الحرب و غیرها: جنگ وغیرہ میں کسی آدمی کی مخالفت کرنا یا کا مقابلہ کرنا۔ تَوَکَّفَ لفلان: کسی کے درپے ہو کر اسے پا لینا۔

۴۔ اَوْکَفَ ایکافاً ت المرأۃُ: عورت کا جننے کے قریب ہونا۔ تَوَکَّفَ الخبرَ: خبر کا انتظار کرنا۔۔ الأثرَ: قدموں کے نشان کا کھوج لگانا۔

۵۔ الوُکُف: چمڑے کا بچھونا۔

○ وَکَفَ یَکِفُ وَکْفاً و وُکُفاناً: ٹپکنا، رِسنا، ناقص ہونا۔ وَکْف: رسنا، ٹپکنا، بحری جہاز میں چھید، سوراخ۔

وکل: وَکَلَ یَکِلُ وَکْلاً و وُکولاً الیه الامرَ: کے سپرد کوئی کام کرنا، کوئی کام سونپنا۔ کہا جاتا ہے کِلْنی الی کذا: یہ کام مجھے کرنے دو۔ وَکَّلَ تَوْکِیلاً فلاناً: کو وکیل بنانا۔ اسم الوَکالة والوِکالة۔ وَاکَلَ وِکالاً و مُواکَلةً القومُ: ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا، کا مطیع و فرماں بردار ہونا، وکیل بننا۔۔ وِکالاَت الدابّةُ: جانور کا بری طرح چلنا۔ اَوْکَلَ ایکالاً: سپرد کرنا، سونپنا۔۔ باللّٰہ: اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔۔ العملَ علی فلان: کام مکمل طور پر کسی کے سپرد کرنا۔ تَوَکَّلَ: وکالت قبول کرنا۔۔ لهٗ بالنجاح: کی کامیابی کا ذمہ دار ہونا۔۔ بالامر: کا ذمہ دار ہونا۔۔ علی اللّٰہ: اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔۔ فی الأمر: میں اپنی کمزوری ظاہر کرنا اور دوسرے پر اعتماد کرنا۔ اِتَّکَلَ علی اللّٰہ: اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔۔ فی امرہ علی فلان: اپنے معاملہ میں کسی پر اعتماد و بھروسہ کرنا۔ تَواکَلَ القومُ: ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا۔ تَواکَلوہُ: کو بغیر مدد کے چھوڑنا۔ تَواکَلوا الکلامَ: کلام میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا۔ کہا جاتا ہے استعنتُ القومَ فتواکلوا: میں نے قوم سے مدد چاہی تو انہوں نے مجھے ایک دوسرے کے حوالے کردیا۔ الواکِل فا۔۔ من الخیل: بغیر مارے نہ چلنے والا گھوڑا۔ الوَکَل و الوُکَلة والتُکَلة والمُواکِل: وہ عاجز جو اپنے کاموں کو دوسرے کے سپرد کرے اور اس پر بھروسہ کرے۔ الوَکِل: کند ذہن، غبی، بزدل، عاجز۔ الوَکال و الوِکال: کمزوری، کند ذہنی، غباوت۔ الوَکالة والوِکالة جمع وَکالات: سپردگی، تفویض، اعتماد، بھروسہ۔ الوَکِیل جمع وُکَلاء: وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جائے، وہ شخص جس کو عاجز آدمی اپنا کام سپرد کردے، بہادر، اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر آئے تو اس کا معنیٰ: رازق اور کفایت کرنے والا ہوتا ہے۔ التُکلان: اعتماد، سپردگی، تفویض۔ المَوکُول مفع: کہا جاتا ہے هٰذا الامر موکول الی رأیك: یہ کام تمہاری رائے کے سپرد ہے۔

○ وَکَلَ یَکِلُ وَکْلاً و وُکُولاً ہ الی: کو کے سپرد کرنا، کوئی کام کسی کو سونپنا، تفویض کرنا۔۔ الی ہ: کے سپرد کوئی کام کرنا، کو کا نگران بنانا۔ وَکَّلَ ہ: کو اختیار دینا، اجازت دینا، کو مختار کرنا، مجاز کرنا، کو نمائندہ یا ایجنٹ مقرر کرنا۔۔ ہ ب: کو کا نگران بنانا۔۔ ہ عن یا ب: کی بطور وکیل، پیروکار، مشیر قانونی یا مختار کسی معاملہ یا جھگڑے میں خدمات حاصل کرنا۔۔ ہ فی: کو میں کامل اختیارات دینا، کو میں مختار بنانا۔۔ ہ ب: کے سپرد کوئی کام کرنا۔ واکَلَ ہ: پر بھروسہ کرنا، کے

ساتھ خفیہ بنیاد پر رہنا، کے ساتھ باہمی اعتماد کی پوزیشن میں ہونا۔ اَوْکَلَ ہٗ الی: کے سپرد کوئی کام وغیرہ کرنا۔ تَوَکَّلَ: نمائندہ یا ایجنٹ کے طور پر تعینات ہونا، نمائندہ کے طور پر فرائض سرانجام دینا یا سنبھالنا۔ ـــ فی: میں بطور کمشنر، ایجنٹ یا مختار کے فرائض سرانجام دینا۔ ـــ ب: کو ذمے لینا، کے لئے ذمہ دار ہونا، جواب دہ ہونا، کا ذمہ دار رہنا، کی ضمانت دینا۔ ـــ علی: پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ تَوَاکَلَ: ایک دوسرے پر اعتماد کرنا، بے اعتنائی سے ردعمل کرنا، لاپروا ہونا، غیر فیصلہ کن ہونا۔ اِتَّکَلَ علی: پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا۔ وَکِیل: باختیار نمائندہ، مختار، (بزنس) منیجر، ہیڈ کلرک، ڈپٹی، وائس (vice)، ایجنٹ، متولی، وکیل صنائی، وکیل، ٹیکنیکل سارجنٹ۔ وکیل الاحباس: اوقاف کا کمشنر۔ الوکیل الباوی: پاپائے روما کا سفیر۔ وکیل بُلُوك امین و وکیل امین: کوارٹر ماسٹر کارپورل، وکیل اوساشی و وکیل محارب: پرائیویٹ فسٹ کلاس۔ وکیل ساتجاویش: شاف سارجنٹ۔ وکیل جاویش، وکیل شاویش و وکیل مجاهد: سارجنٹ۔ وکیل ضابط: نان کمشنڈ آفیسر، کمپنی سارجنٹ میجر، ماسٹر سارجنٹ۔ وکیل الحق العام: تونس کی عدالتوں میں حکومتی کمشنر۔ وکیل قنصل: وائس کونسل (vice consul)۔ وکیل مدیر: ڈپٹی ڈائریکٹر۔ وکیل الوزارۃ: انڈر سیکرٹری آف سٹیٹ۔ تُکَلَۃ: دوسروں پر بھروسہ کرنے والا، جو اپنے معاملات سرانجام دینے کے قابل نہ ہو۔ وَکَالَۃ جمع وَکَالات: نمائندگی، ڈپٹی شپ، مختار کا ذریعہ، کامل اختیار، مختار کا اختیار، انتظام، بندوبست دیکھ بھال، ایجنسی، سرائے، کارواں سرائے، ریسٹ ہاؤس۔ وکالۃ الانباء: نیوز ایجنسی، خبر رساں ایجنسی۔ وکالۃ الاشهار: ایڈورٹائزنگ ایجنسی۔ توکیل: نمائندہ، ایجنٹ، ڈپٹی یا مختار کے طور پر تقرر، اختیارات کی تفویض، اختیار، اجازت، مختار کا اختیار، کامل اختیار، مختار کا اجازت نامہ۔ تَوَکُّل: یقین، اعتماد، بھروسہ۔ تَوَاکُل: باہمی اعتماد یا یقین، بے اعتنائی، بے رخی، لاپروائی۔ اِتِّکَال: یقین، اعتماد، بھروسہ۔ مُوَکِّل: نمائندہ بنانے والا، گماشتہ مقرر کرنے والا، اختیار دینے والا، سرچشمہ۔ مُوَکَّل ب: کیلئے ذمہ دار، جواب دہ، کا نگران، کچھ سونپا ہوا۔

وکم: ۱۔ وَکَمَ یَکِمُ وَکْماً الامرُ فلاناً: معاملہ کا کسی کو غمگین کرنا۔ ـــ فلاناً عن حاجتہ: کو اس کی حاجت سے سختی سے روکنا۔ ـــ کَمِہَ الرجلُ من الشیءِ: سے گھبرانا، پر غمگین ہونا۔ الوَکْمَۃ: اسم مرۃ۔ المَوْکُوم: سخت غمگین۔

۲۔ وُکِمَتِ الأرضُ: زمین کا روندی ہوئی اور چری ہوئی گھاس والی ہونا۔

۳۔ الوَکَمَۃ: بہت درندوں والا جنگل۔

ⓢ مُوکِم: ناپسندیدہ، ناگوار یا دل کو دکھ پہنچانے والا (لفظ وغیرہ)۔

وکن: ۱۔ وَکَنَ یَکِنُ وَکْناً و وُکُوناً الطائرُ بیضہ او علی بیضہ: پرندے کا انڈے سینا۔ صفت: وَاکِن جمع وُکُون مونث وَاکِنَۃ جمع وُکُون و وَاکِنات۔ ـــ الطائرُ: پرندے کا گھونسلے میں جانا۔ ـــ وَکْناً الرجلُ: بیٹھنا۔ تَوَکَّنَ الرجلُ: مجلس میں اچھی طرح تکیہ لگانا، مضبوط ہونا، بااختیار ہونا۔ الوَاکِن مونث وَاکِنَۃ: بیٹھنے والا۔ ـــ من الطیر: دیوار، لکڑی یا درخت پر وارد ہونے والا پرندہ۔ الوُکْن جمع اَوْکُن و وُکُن و وُکُون و الوَکْنَۃ والوِکْنَۃ و الوُکْنَۃ و الوُکُنَۃ جمع وُکُنات و وُکْنات و وُکَنات و وُکَن: گھونسلا۔ المَوْکِن: وہ جگہ جہاں انڈے ہوں۔ و المَوْکِنَۃ: گھونسلا۔

۲۔ وَکَنَ یَکِنُ وَکْناً الرجلُ: تیز چلنا۔

وکی: وَکَی یَکِی وَکْیاً القربۃَ: مشک کو بندھن سے باندھنا۔ وَکَی الفرسُ المیدانَ جریاً: گھوڑے کا پورے میدان میں بھاگنا۔ وَاکَی مُوَاکَاۃً و وِکَاءً: دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانا۔ اَوْکَی ایکاءً القربۃَ و علی ما فی القربۃ: مشک کو بندھن سے باندھنا۔ ـــ الرجلُ: بخل کرنا۔ (کہا جاتا ہے: سألناہ فأوکی علینا: ہم نے اس سے مانگا تو اس نے ہم سے بخل کیا) تیز دوڑنا۔ ـــ الفرسُ المیدانَ جریاً: گھوڑے کا پورے میدان میں دوڑنا۔ اِسْتَوْکَی الوعاءُ: برتن کا بھر جانا۔ ـــ البطنُ: قبض ہونا۔ الوِکَاء جمع اَوْکِیَۃ: مشک وغیرہ کو باندھنے کی چیز، بندھن، برتن وغیرہ کا منہ باندھنے کی چیز۔ المُوکَی (مفع): بندھے ہوئے منہ کی مشک۔

ⓢ وَکَی یَکِی ہٗ: مشک وغیرہ کو باندھنا۔ الوِکَاء جمع اَوْکِیَۃ: مشک یا تھیلا باندھنے کا تسمہ یا ڈوری، رسی، سُتلی وغیرہ۔

ولّ: وَلْوَلَ وَلْوَلَۃً و وَلْوَالاً المرأۃُ: عورت کا واویلا کرنا، گریہ زاری کرنا۔ ـــ تِ القوسُ: کمان کا آواز کرنا۔

۲۔ الوَلْوِتْشِیَا (ن): جنوبی افریقہ کے بعض علاقوں میں اگنے والی نباتات جس کے بیج ننگے ہوتے ہیں، اس کا تنا زمین پر تھوڑا سا نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ موٹا ہو جاتا ہے۔

ولب: ۱۔ وَلَبَ یَلِبُ وُلُوباً: داخل ہونا، جلدی کرنا۔ ـــ اِلَیْكَ الشیءُ: چیز تم تک پہنچی، جو کچھ بھی تھی۔ الوَالِب: کسی چیز میں جانے اور داخل ہونے والی (چیز)۔

۲۔ الوَالِبَۃ: کھیت کی روئیدگی۔ ـــ من القوم او المواشی: اولاد، نسل، (لوگوں یا مویشیوں کی)۔

ولت: وَلَتَ یَلِتُ وَلْتاً و اَوْلَتَ فلاناً حقّہٗ: کا حق گھٹانا۔

ولث: ۱۔ وَلَثَ یَلِثُ وَلْثاً لہ عهداً: سے کمزور وعدہ کرنا۔ ـــ فلانٌ: کسی کا غلام سے کہنا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ الوَلْث: کچا عہد۔

۲۔ وَلَثَ یَلِثُ وَلْثاً فلاناً بالعصا: کو لاٹھی سے مارنا۔ ـــ تِنَا السماءُ: آسمان نے ہم پر تھوڑی بارش کی۔ الوَلْث (مص): تھوڑی بارش، برتن میں نبیذ کا بچا ہوا حصہ، آشوب چشم کا اثر۔

ولج: وَلَجَ یَلِجُ وُلُوجاً و لِجَۃً البیتَ و وَلَجَ الشیءُ فی غیرہ: گھر میں داخل ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا۔ وُلِجَ الرجلُ: پیٹ کی بیماری والا ہونا۔ وَلَّجَ ہٗ و وَلَّجَ الیہ الأمرَ فتولّجہٗ: معاملہ کو کسی کے سپرد کرنا اور معاملہ اس کے سپرد ہو جانا۔ ـــ المالَ: سائلین کے سوال سے بچنے کیلئے اپنی زندگی میں مال اپنی اولاد میں سے کسی کو دے دینا۔ اَوْلَجَ اِیْلاجاً و اِتَّلَجَ اِتِّلاجاً ہٗ: کو داخل کرنا۔ تَوَلَّجَ تَوَلُّجاً و اِتَّلَجَ اِتِّلاجاً الیہ و فیہ: میں داخل ہونا۔ الوَالِجَۃُ: سانپ، درندے (طب): پیٹ کا درد۔ الوَلَج: ریت کا راستہ۔ الوُلُج: وِلاج کا جمع: اطراف و نواحی کوچے، گلیاں، شہد کھانے کے چمچے۔ الوَلَجَۃ جمع اَوْلاج و وَلَج و وَلَجات: داخل ہونے کی جگہ، وادی کا موڑ، وہ غار جس میں راہ گیر بارش وغیرہ سے پناہ لیں۔ الوُلَجَۃ و الوَلُوج: بہت داخل ہونے والا۔ کہا جاتا ہے ہُوَ وَلُوجٌ خَرُوجٌ: بہت داخل ہونے والا اور بہت نکلنے والا۔ الوِلاج جمع وُلُج و وُلُوج: دروازہ، وادی، پست زمین۔ الوَلّاج: بہت داخل ہونے والا۔ الوَلِیجَۃ: آدمی کا باطن، بھیدی، راز دار، قوم کے ساتھ چمٹا رہنے والا اجنبی۔ (کہا جاتا ہے: ہو ولیجتہم: وہ ان کا راز دار ہے، محرم ہے یا ہمراز ہے) وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ رہے مگر ان میں سے نہ ہو۔ التَّلَج (ح): عقاب

کاچوزہ۔ التَوْلَج وحشی جانوروں کے رہنے کی جگہ۔ المَوْلِج جمع مَوَالج داخل ہونے کی جگہ۔

○ وَلَجَ يَلِجُ و لِجَةً وُلُوجا ہ یا اِلی. میں داخل ہونا، کے آرپار ہوجانا۔ ولج الباب: دروازے سے اندر جانا۔ اَوْلَجَ ہ فی کو میں داخل کرنا، کو میں رائج کرنا، کو میں ڈالنا، کو میں بڑھانا، کو میں ٹھونسنا۔ تـوَلّـجَ: بمعنی ولج نیز تَوَلَّجَ ہ میں مشغول ہونا، کو اپنے ذمہ لینا، کی ذمہ داری اٹھانا۔ وُلُـوج: داخل ہونا، داخلہ۔ وَلِيـجَة جگری دوست، راز دار، ہمدم، ہمراز، معتمد علیہ، دل کی گہرائی۔ ایلاج: درج کرنا، شمولیت، داخل کرنا، شامل کرنا، ڈالنا، ٹھونسنا۔ مَوْلِج. دروازہ رستہ، باریابی، رسائی۔

ولح: ولَحَ يَلِحُ وَلْحاً الدابّۃ جانور پر اسکی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔ الولـحة ولائح اور ودیح کا واحد: بوری۔

ولخ ا۔ وَلَخَ يَلِخُ وَلْخاً ہ کو تھپڑ مارنا۔

۲۔ اَوْلَخَ العشبُ گھاس کا دراز اور موٹی ہونا۔ اِئْتَلَخَ الأمرُ: معاملہ کا خلط ملط ہونا، گڈمڈ ہونا۔ اِسْتَوْلَخَ استيلاخاتِ الأرضُ زمین کا تر ہونا۔ الوَلَخُ من العشب: لمبی گھنی گھاس۔ ارضٌ وَلِخَة: گھنی گھاس والی زمین۔ الوَلِيخ السی کا کپڑا۔ الوَلِيخَة: جما ہوا گاڑھا دودھ، کیچڑ، ارضٌ وَلِيخَةٌ و مُوتَلخَة: گھنی گھاس والی زمین۔

ولد: وَلَدَ يَلِدُ لِدَةً و وِلادًا و وِلادَةً و اِلادَةً و مَولِداً ثُ الأنثی: (مادہ کا) جننا۔ صفت: والِد و والِدَة۔ ـتِ الارضُ النباتَ: زمین کا نباتات اُگانا۔ وَلَّدَ الوَلَدَ: بچہ کی پرورش کرنا، کو پالنا۔ ــــ الشیءَ من الشیء: ایک چیز سے دوسری چیز پیدا کرنا۔ الکلامَ او الحدیثَ کلام یا بات کو نیا بنانا۔ ــــ القابلۃُ المرأةَ: دایہ کا عورت سے بچہ جنوانا، دایہ کا بچہ جننے میں عورت کی مدد کرنا۔ کہا جاتا ہے: وَلَّدَ الرجلُ غنمهُ آدمی نے اپنی بھیڑ بکریوں کے بچے نکلوائے، جنوائے جس طرح کہا جاتا ہے۔ نَتَجَ اِبلَهُ اس نے اپنی اونٹنیوں کے بچے نکلوائے جنوائے) اَوْلَدَ ایلاداً تِ المرأةُ: عورت کے بچہ جننے کا وقت قریب آجانا۔ ــــ الشاةُ: بکری کا بچہ جننا صفت: مُولِد جمع مَوَالِد و مَوَالِيد۔ تَوَلَّدَ الشیءُ من غیرہ: چیز کا دوسری شے سے پیدا ہونا۔ تَوَالَدَ و اِتَّلَدَ القومُ: قوم کا کثیر ہونا، ایک کا دوسرے کو پیدا کرنا۔ اِسْتَوْلَدَ المرأةَ: عورت کو حاملہ کرنا۔ ــــ فلانٌ: بچے کا خواہاں ہونا۔ الوالِد جمع والِدُون: باپ۔ شاة والد جمع وُلُد حاملہ بکری۔ الوالِدان: باپ اور ماں۔ الوالِدة جمع والدات: ماں۔ اللِدَة (مص) پیدائش کا وقت، (کسی کے ساتھ) ایک ہی وقت میں پیدا ہونے یا پرورش پانے والا (اصل میں وِلد ہے) آپ کہتے ہیں: فلان لِدَتِی: وہ میرا ہم عمر ہے۔ مُثنی: لِدان جمع لِدات و لِدُون تصغیر وُلَيدات و وُلَيدُون۔ الوَلَد و الوُلْد و الوِلد و الوَلْد: بچہ (مذکر مونث تثنیہ جمع سب کیلئے) کبھی جمع لا کر اولاد اور وِلْدَة۔ اِلْدَة اور وُلْد کہتے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں: لا ادری ایَّ ولد الرجل ھو میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ الوَلّادَة: والدہ کے لئے مبالغہ کا صیغہ۔ الوَلُود من الشاء جمع وُلُد جننے والی بکری، بہت جننے والی بکری۔ الوُلُودِيَّة و الوَلُودِيَّة بچپن۔ تخئی طبیعت، نادانی، جفا۔ الوَلِيد جمع وِلْدَة و وِلْدان مونث وَلِيدَة جمع وَلائد: پیدا شدہ، بچہ، غلام۔ امُ الوَلِيد: مرغی۔ کہا جاتا ہے: فعل ذلک فی وَلِيدِيَّتِه: اس نے یہ کام اس حالت میں کیا جب وہ بچہ تھا۔ المَولِد (مص) جمع مَوَالِد: پیدائش کی جگہ یا وقت۔ المُوَلِّد: جزیٹر، ڈ-نمو۔ المُوَلَّد (مفع): نیا پیدا شدہ۔ المُوَلَّدون: مابعد کلاسیکی اور حالیہ شعراء، ادباء و مصنفین۔ رجُلٌ مُوَلَّدٌ و کلامٌ مُوَلَّدٌ: دوغلا آدمی، مابعد کلاسیکی لفظ، زبان یا اظہار، نیا لفظ۔ المُوَلِّدَة دائی۔ المُوَلَّدَة نئی پیدا شدہ چیز۔ کہا جاتا ہے: جاء نا بِبَيِّنَةٍ مُوَلَّدَةٍ: وہ ہمارے پاس بناوٹی دلیل لایا۔ المَوْلُود (مفع) جمع مَوَالِيد چھوٹا بچہ۔ المِيلاد: پیدائش کا وقت۔ عِيدُ المِيلاد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی عید، عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام۔

○ وَلَدَ يَلِدُ وِلادَةً و لِدَةً و مَولِدًا ہ کا باپ بننا، باعث ہونا، بنانا، پیدا کرنا، بچہ پیدا کرنا، نسل بڑھانا، جننا۔ ــ د بچہ جننا، بچہ پیدا کرنا۔ ــ ہ کو بنانا، تخلیق کرنا، وجود میں لانا، پھلدینا۔ ولدت منه: عورت کا مرد سے بچہ ہونا۔ وَلَّدَها عورت کو بچہ جننے میں مدد دینا (دایہ کا)۔ ــ ہ من کو سے بنانا، پیدا کرنا، وجود میں لانا، تخلیق کرنا۔ ــــ ہ کا باعث ہونا، کی صورت پیدا کرنا، کو پیدا کرنا، کو پالنا، کسی کی نسل کشی کرنا، کو پالنا پوسنا، کی تربیت کرنا، کی ضرورت کا باعث بننا، کی پرورش کرنا۔ اَوْلَدَها عورت سے بچے پیدا کرانا۔ تَوَلَّدَ: پیدا ہونا۔ ــ من: کی نسل سے ہونا، سے پیدا ہونا، سے جننا، سے بچے، پھل دیا جانا، کے باعث ہونا، سے وجود میں آنا، سے ہونا، سے بڑھنا، بچنے کی تکمیل کو پہنچنا، کا نتیجہ ہونا، سے نتیجہ نکلنا، کا انجام ہونا۔ تَوَالَدَ نسل بڑھنا۔ اِسْتَوْلَدَ: بچے چاہنا۔ ــ ہ من. کی سے نسل چاہنا، کو سے پیدا کرنا چاہنا۔ وَلَد جمع اَوْلَاد و وُلْد: اولاد، خلف، نسل، بچہ، چشم و چراغ، نونہال، بیٹا، لڑکا، نوجوان جانور، (جمع) بچے، آل اولاد، نسل۔ ولد الزنا: ناجائز بچہ یا اولاد، حرامی، حرام زادہ۔ ولدُ المُلاعَنَة: بچہ جس کی ولدیت لعان کے ذریعہ طے کی جائے۔ وِلْدَة: بچہ کی پیدائش، پیدائش۔ ولدت اثنين فی ولدة: اس نے بیک وقت دو بچوں کو جنم دیا۔ لِدَة: بچہ کی پیدائش، پیدائش جمع لِدُون ولدات: ہمعمر، ہم عصر۔ وِلادَة: جننا، زائدگی، بچہ کی پیدائش، پیدائش، حالت زچگی، تولید، وضع حمل۔ ولادة مُعَجَّلَة: قبل از وقت پیدائش۔ حديث الولادة: نومولود۔ عِلمُ الولادة: قابلہ گیری، دایہ گیری۔ وَلّادَة: اکثر بچے دینے والی، کئی بچے پیدا کرنے والی، ہری گود والی، بچے دے سکنے والی، نسل پھیلانے والی، بچے پیدا کرنے والی۔ وَلُود: بمعنی وَلّادة۔ وُلُودِيَة: بچوں کا سا مزاج، طفل مزاجی، بچپن، چھچھوراپن۔ وَلِيد جمع وِلْدان: نومولود بچہ، لڑکا بیٹا، نوجوان، نیا۔ وليدُ ـــــ: کی پیداوار، کا نتیجہ، سے اچانک آیا ہوا، سے نکلا ہوا، کا باعث۔ وليدُ ساعته: جھٹ پٹ یا وقتی جذبہ کے تحت سوچا یا تصور کیا ہوا (خیالی، منصوبہ وغیرہ)۔ وَلِيدَة جمع وَلائِد: نومولود لڑکی، لڑکی، پیداوار۔ وُلَيد چھوٹا بچہ۔ مَوْلِد جمع مَوَالِد: جائے پیدائش، یوم پیدائش، سالگرہ، ولی وغیرہ کا یوم پیدائش۔ المولدُ النبوی یا مولد النبیؐ رسول اللہ کا یوم پیدائش۔ لُغَةُ المولِد. مادری زبان، ملکی زبان۔ مِيلاد جمع مَوَالِيد: پیدائش، پیدائش کا وقت، ولادت، یوم پیدائش جمع مَوَالِيد: عمر کے طبقے، عمر کے گروپ۔ عِيدُ المِيلاد: کرسمس christmas یا xmas، میلاد مسیح، عیسائیوں کا بڑا دن۔ قبل میلاد المسیح یا قبل المیلاد: حضرت عیسیٰ مسیح سے پہلے (BC)۔ نُقْصانُ الموالید: گری ہوئی شرح پیدائش۔ میلادِی: حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے متعلق، حضرت عیسیٰؑ کے بعد (A.D.)۔ سنة میلادیه: سن عیسوی۔ تَوْلِيد: پیدا کرنا، بنانا، دایہ گیری، قابلہ گیری، بچہ جننے کے وقت مدد، تولید، وضع حمل۔ دار التولید: و مَصَحَّةٌ للتولید: زچہ ہسپتال (maternityhome)۔ فن التولید: دایہ گیری، دایہ گری، قابلہ گیری۔

مَعْمَلُ (بِامحَطّةَ) تولِيد القوة الكهربانية: برقی قوت کا مرکز۔ تـولِيـد الهلال: رمضان کے پہلے دن نئے چاند کا نمودار ہونا۔ تَـوَلَّـد: پیدائش، تخلیق، پیداوار۔ استیلاد: بمعنی تولد۔ وَالِد: باپ۔ وَالدان: باپ اور ماں۔ وَالِـدَة جمع وَالِـدات: ماں، زچہ۔ وَالِـدِی: باپ کا باپ کی طرف سے۔ مَولُود: بنایا ہوا، پیدا کیا ہوا، دنیا میں آیا ہوا، پیدائش، یوم پیدائش جمع مَـوَالِيد: نومولود بچہ، شیر خوار بچہ، بچہ، بیٹا جمع مَوَالِيد: تخلیقات، بہت سی اچھی اور سستی چیزیں۔ المَوالِيد الثلاثة: قطرت کی تین حکومتیں۔ مُـوَلِّـد: پیدا کرنے والا، بنانے والا، طاقت تولید رکھنے والا، پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، افزائش نسل کرنے والا، بزرگ، جد، مورث، پدر، وضع حمل کا ماہر طبیب جمع مُـوَلِّـدات: جنریٹر (generator)۔ مُـوَلِّـدُ التَّيَّـار او مـولـد كَهْـرَبَـائِـى: جنریٹر، ڈینمو۔ مـولـد التيـار المتـنـاوب: اے سی کرنٹ جنریٹر، الٹی رو والا برق ساز، اے سی ڈینمو۔ مُوَلِّدُ الحموضة: آکسیجن۔ مُولِّد الماء: ہائیڈروجن۔ مُوَلِّد ذرىّ: ایٹمی ری ایکٹر (atomic reactor)۔ مُـوَلِّـدَة: جمع مُوَلِّدات: دائی، دایہ۔ مُوَلَّد: پیدا شدہ، بنایا ہوا، پیدا کیا ہوا، پالا پوسا ہوا، عربوں میں پیدا اور پروان چڑھنے والا (جو خالص عربی النسل نہ ہو)، جو صحیح معنی میں قدیم عربی نہ ہو، اور بعد میں اس زبان میں رائج ہوا ہو، مابعد کلاسیکی (خصوصاً لفظ)، دوغلا جمع مُوَلَّدات: پیداوار جمع المُـوَلَّدُون: بعد کلاسیکی (نیر جدید) عرب شعراء، ادباء و مصنفین۔ وَلْـدَنَة: بچپن، بچگانہ چال، چھچھوراپن۔

ولذ: وَلَـذَ يَـلِذُ وَلْذًا الرجُلُ: جلدی جلدی چلنا، تیزی سے حرکت کرنا۔

ولس: ا۔ وَلَـسَ يَلِـسُ وَلْسًا وَلَسَانًا تِ الابلُ: اونٹوں کا تیز دوڑنا صفت: وَلُوس۔

۲۔ وَلَسَ يَلِسُ وَلْسًا الرجُلَ: کو دھوکا دینا، کی خیانت کرنا۔ ـــ الحديثَ: کنایۃ سے بات کرنا، واضح طور پر کچھ نہ کہنا۔ وَالَسَ مُوَالَسَةً هُ: کو فریب دینا، سے مداہنت کرنا۔ ـــ وَاوْلَسَ بالحديث: کنایہ سے بات کرنا، واضح طور پر کچھ نہ کہنا۔ تَوَالَسَ القومُ: عليه: کے خلاف دھوکے اور خیانت میں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا۔ الوَلّاس: بھیڑیا۔

۳۔ وَالَسَ: منافقت کرنا۔ ـ ه: کے ساتھ دورخی سے کام لینا۔ ـ ب: کسی بات کو خلاف واقعہ بیان کرنا، کی غلط تصویر پیش کرنا، کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کے بارے میں غلط بیانی کرنا۔ وَلْس: دھوکا، فریب، دغا، جل، چھل، دھوکا بازی، دغا بازی، عیاری، چالاکی، دورخی، فریب کاری۔ مُوَالَسَة: بمعنی وَلْس۔

وَلْط: وولٹ (volt)۔

ولع: ا۔ وَلَعَ يَلَعُ وَلْعًا بحقه: کا حق تلف کرنا۔ کی حق تلفی کرنا۔ ـــ وَلْعًا و وَلَعَانًا: جھوٹ بولنا، دوڑنے میں ہلکا پھلکا ہونا۔ کہا جاتا ہے: مـا أدْرِى مـاوَلَعَهُ: مجھے معلوم نہیں کہ اسے کس چیز نے روک لیا۔ وَلِـعَ يَوْلَـعُ وَيَلَعُ وَلَعًا و وُلُوعًا و تَوَلَّعَ به: سے محبت کرنا، پر شیفتہ ہونا۔ وَلِعَ به: سے محبت کرنا، سے لگاؤ رکھنا، کا اشتیاق رکھنا۔ وَلَّـعَ هُ بفلان: کو کی محبت پر اکسانا۔ ـــ النارَ: آگ جلانا۔ أَوْلَعَ إيلاعًا فلانًا بكذا: کو کا محب بنانا، کا سے لگاؤ رکھوانا، کی محبت پر اکسانا۔ أُولِعَ به: سے محبت کرنا، سے لگاؤ رکھنا۔ کہا جاتا ہے: اِتَّلَعَ فلانًا والعةٌ: اس کا حال مجھ سے مخفی ہے، مجھے معلوم نہیں وہ مر گیا یا زندہ ہے۔ اِيتَلَعَ فلانٌ قلبى: فلاں شخص نے میرا دل چھین لیا۔ الوَالِع (فا) جمع وَلَعَه مونث وَالِعَة: جھوٹا۔ وَلْعٌ وَالِع: بڑا جھوٹ، زبردست جھوٹ۔ الوَلْع (مص): جھوٹ۔ الوَلِع: بہت محبت کرنے اور لگاؤ رکھنے والا۔ الوَلْعَة عند العامة: (عام لوگوں کے نزدیک) جلتی ہوئی لکڑی۔ الـوُلَـعَة: لایعنی بات کا شوقین یا متجسس۔ اللاّعَة و الـوُلُوع: بہت محبت کرنے اور لگاؤ رکھنے والا۔ الـمُوتَلَعُ القلب و المُتَّلَعُ القلب: آشفتہ دل۔

۲۔ وَلَّعَ الثورُ: بیل کا دھاریدار ہونا۔ ـــ جَسَدَهُ: کے جسم کو سفید داغوں والا بنانا۔ الوَلِيع: واحد وَلِيعَة: کھجور کا پھول جو غلاف میں ہو۔ الـمُوَلَّع (مفع): برص والا۔ ـــ من الدوابّ: دھاریدار جانور۔

وَلِـعَ يَوْلَعُ وَلَعًا و وُلُوعًا: آگ لگنا، جلنا۔ ـــ ب: سے محبت کرنا، سے لگاؤ رکھنا، کا دلدادہ ہونا، کے ساتھ بے حد پیار کرنا، کے پیچھے پاگل، سودائی یا دیوانہ ہونا، کے بارے میں مخبوط ہونا، کیلئے پر جوش ہونا، کے بارے میں سرگرم ہونا۔ وَلَّـعَ ہ: کو جلانا، روشن کرنا، کو آگ لگانا۔ ـ ہ ب: کو کا مشتاق بنانا، کسی کی خواہش کو کیلئے برافروختہ کرنا، کو پر فریفتہ کرنا، کو کا گرویدہ بنانا۔ أَوْلَعَ: بمعنی وَلَّعَ۔ أُولِعَ ب: کا دلدادہ ہونا، پر فریفتہ ہونا، کا گرویدہ ہونا، کیلئے ہمہ تن نذر ہو جانا، میں کلیۃً لگ جانا، پر بری طرح مائل ہونا، سے محبت کرنا۔ تَوَلَّعَ: بمعنی وَلِعَ۔ وَلَع: جذباتی محبت، سرگرم خواہش یا تمنا، طلب، خواہش، عشق، بے حد شوق۔ وَلِع: پاگل پن سے محبت کرنے والا۔ وَلُوع: لالچ، حرص، طلب، خواہش، محبت، سرگرم خواہش یا تمنا۔ وَلّاعَة: (سگرٹ) لائٹر۔ تَـوَلُّـع: پر جوش یا جذباتی محبت، سرگرم خواہش یا تمنا، طلب، خواہش، بے حد شوق۔ مُولَع ب: سے محبت کرنے والا، پر بری طرح مائل، کے پیچھے پاگل، کا دیوانہ، کا پر جوش دلدادہ پر فریفتہ، کا گرویدہ، کے متعلق سرگرم یا پر جوش، کیلئے پر جوش۔

ولغ: وَلَـغَ يَلَغُ و وَلِغَ يَلِغ و يَوْلَغُ و يَالَغُ وَلْغًا وُلْغًا و وُلُوغًا و وَلَغَانًا الكلبُ الإناءَ و فى الأناء: کتے کا برتن میں منہ ڈالنا اور زبان سے اس میں پڑی چیز کو چپڑ چپڑ پینا، چاٹنا۔ أَوْلَغَ إيلاغًا الكلبَ: کو پلانا۔ الـوُلْغة: اسم مرة، چھوٹا ڈول۔ الـوَلُوغ: چاٹنے یا چپڑ چپڑ کر کے پینے والی چیز۔ الـمِيلَغ و الـمِيلَغَة جمع مَيَالِغ: کتے کے کچھ پینے یا چاٹنے کا برتن۔ الـمُسْتَولَغ مِن الناس: عزت کی پرواہ نہ کرنے والا۔

وَلَغ يَلَـغُ وَلْغًا و وُلُوغًا: چاٹنا، چپڑ چپڑ کر کے پینا (خصوصاً کتے کا۔) ـ فى: کو بے عزت کرنا، کی بے حرمتی کرنا۔ وَلَـغَ فـى الـدم: خون چکھنا، خونخوار ہو جانا، خون کا پیاسا ہو جانا۔

ولف: وَلَفَ يَلِفُ وَلْفًا و وِلافًا و إلافًا و وَلِيفًا البرقُ: بجلی کا لگاتار چمکنا۔ ـــ وَلِيفًا القومُ: سب لوگوں کا اکٹھا آنا۔ وَالَفَ وِلافًا و مُوَالَفَةً هُ: سے محبت کرنا، سے مل جانا، کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ تَوَالَفَ مُوَالَفَةً و وِلافًا الشيئان: ایک دوسرے سے الفت کرنا۔ الولُف: ساتھی، دوست۔ الوِلاف (مص): ایک قسم کی دوڑ جس میں ٹانگیں زمین پر اکٹھی پڑتی ہیں۔ الـوَلُوف: لگاتار چمکنے والی بجلی۔ الوَلِيف: ایک قسم کی دوڑ جس میں ٹانگیں زمین پر ایک ساتھ پڑتی ہیں، لگاتار چمکنے والی بجلی، دوستی، انس، محبت۔

ولق: وَلَقَ يَلِقُ وَلْقًا فى السير: تیز چلنا۔ ـــ هُ بالرمح: کو ہلکے سے نیزہ مارنا۔ ـــ هُ بالسيف: کو تلوار مارنا۔ ـــ الحديثَ: بات پھیلانا، گھڑنا۔ ـــ عينَهُ: کی آنکھ پر مار کر اسے پھوڑ دینا۔ ـــ فى كذبه او سيره: جھوٹ بولتے رہنا، چلتے رہنا۔ أَوْلَقَ إيلاقًا و أُلِقَ أَلْقًا: پاگل ہونا صفت: مَألُوق و مُؤَوْلَق۔ الأَوْلَق: پاگل پن۔ الوَلَقَى: اونٹنی کی سخت اور کودنے والی دوڑ۔ نـاقةٌ وَلَقَى: تیز رفتار اونٹنی۔ الـوَلِيقَة (ط): آٹے دودھ اور گھی سے تیار

کردہ کھانا۔

ولم: اَوْلَمَ اِیْلاماً: ولیمہ کرنا۔ ــــ فلانٌ: خلقت یا اخلاق وعقل میں مکمل ہونا۔ الوَلْم والوَلَم: بند، گھوڑے یا اونٹ کا تنگ۔ الوَلْمة: سب کا سب، چیز کا اجتماع۔ الوَلِیمَة جمع ولائِم: شادی کی خوشی کی دعوت، خاص یا بڑی ضیافت۔

ولن: تَوَلَّنَ الرجُلُ: مصیبت کے وقت بلند آواز سے چلانا۔

وله: وَلَهَ یَلِهُ وَلَهًا: کی زیادتی غم سے عقل زائل ہونے کے قریب ہونا، شدت غم سے متحیر ہونا صفت: وَالِہ و الِہٌ و وَلْهَان مونث وَالِه و وَالِهةٌ و وَلْهَی۔ ــــ الصبیُّ الی امه: بچہ کا ڈر کر ماں کی طرف لپکنا۔ ــــ ت الأمّ اِلی ولدها: ماں کا بچے کا مشتاق ہونا، آرزو مند ہونا، بچہ کی خواہش کرنا۔ ــــ منهُ: سے ڈرنا۔ وَلِهَ یَلِهُ یَلَهُ وَلِهٌ و وَلَهٌ بمعنی وله وَلَّهَ الرجُل: کو زیادتی غم میں ڈالنا۔ ــــ المراۃ: ماں کو بچہ سے جدا کرنا۔ ــــ و اَوْلَهَ الحزنُ او الوجدُ فلاناً: غم کا کسی کو سرگشتہ وحیران کرنا۔ اِتَّلَهَ: کی شدت غم سے عقل زائل ہونے کے قریب ہونا، غم کی زیادتی سے متحیر ہونا۔ ــــ النبیذُ فلاناً: نبیذ کا کسی کو مدہوش کرنا۔ اِسْتَوْلَهَ اِسْتِیلاهاً: بدحواس ہونا۔ المُوْلَهُ (ح): مکڑی۔ ماءٌ مُوْلَهٌ و مُوَلَّهٌ: بیابان میں چھوڑا ہوا پانی۔ المِیْلَه: ویران کن ریگستان۔ المِیْلاه: سخت ہوا۔ امرأۃٌ مِیلاهٌ: بچہ کی موت پر سخت غم وصدمہ کرنے والی عورت۔

○ وَلَهَ یَلِهُ و وَلِهَ یَوْلَهُ وَلَهاً: گھبرا جانا، ہواس قائم نہ رہنا، (محبت، رنج وغیرہ سے) پاگل ہو جانا، کا توازن قائم نہ رہنا۔ وَلَّهَه و اَوْلَهَهُ: کو پاگل کر دینا، سخت گھبراہٹ میں ڈال دینا، کو بدحواس کر دینا۔ تَوَلَّهَ: بمعنی وَلَهَ نیز تَوَلَّهَ بـ: پر لٹو ہونا، فریفتہ ہونا۔ وَلَه: جنون، پاگلپن، سخت گھبراہٹ، دوران سر، جلد بازی، تکلیف اضطراب، پرجوش محبت، عاشقانہ وجد۔ وَلْهان: جنونی، پاگل، پریشان، گھبرایا ہوا، بوکھلایا ہوا، حیران، بدحواس جس کا سر چکرا گیا ہو، جلد باز، سرگرم محبت کرنے والا۔ تَوَلُّهٌ: پاگل پن، جنون سخت گھبراہٹ، دورانِ سر، جلد بازی، فریفتگی، شیفتگی۔ وَالِه: جنونی، پاگل، گھبرایا ہوا، بوکھلایا ہوا، حیران، بدحواس، جس کا سر چکرا رہا ہو، جلد باز، صدمہ کا مارا ہوا، سخت رنجیدہ۔ مُتَوَلِّهٌ: پاگل، مجنون، گھبرایا ہوا، بوکھلایا ہوا، حیران، بدحواس، جس کا سر چکرا رہا ہو، جلد باز۔

ولی: وَلِی یَلِی وَلْیاً فُلاناً: کے قریب ونزدیک ہونا، بغیر فاصلہ کے، کے پیچھے پیچھے جانا۔ کہا جاتا ہے: جلستُ مما یلیه: میں اس کے قریب بیٹھا۔ ــــ یَلِی وَلْیاً فلاناً: کے قریب ونزدیک ہونا، بغیر فاصلہ کے کے پیچھے پیچھے جانا۔ ــــ وِلَایَةً و وَلَایَةً الشیءَ وعلیه: پر حاکم مقرر ہونا، متصرف ہونا۔ ــــ الرجُلَ و علیه: کو مدد دینا، کی مدد کرنا۔ ــــ البلدَ: شہر یا ملک پر تسلط پانا۔ ــــ وَلَایَةً الرجُلَ: سے محبت کرنا۔ وُلِیَ المکانُ: جگہ کا موسم بہار کی بارش سے سیراب ہونا۔ وَلَّی تَولِیَةً فلاناً الامرَ: کو کا والی مقرر کرنا، کو کا انتظام سپرد کرنا۔ ــــ هُ کذا: کو کے پیچھے کرنا۔ ــــ ہ ظهرَهُ: کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کرنا۔ ــــ الشیءَ و عن الشیء: سے اعراض کرنا، دور ہونا، منہ پھیرنا۔ ــــ هارباً: پیٹھ دے کر بھاگنا۔ ــــ الرُطَبُ: کھجوروں کا پیلا ہونے لگانا۔ ــــ عن زید بودّه: کی دوستی سے منہ پھیرنا۔ وَالَی وِلاءً و مُوَالاۃً الرجُلَ: سے دوستی کرنا، کی مدد کرنا۔ ــــ الشیءَ: کو لگاتار کرنا۔ ــــ الغنمَ: بکریوں کو الگ الگ کرنا۔ ــــ بین الأمرین: کو پے در پے کرنا۔ اَوْلَی اِیْلاءً فلاناً الأمرَ: کو کسی معاملہ کا والی مقرر کرنا۔ اولاهُ معروفاً: پر احسان کرنا۔ تعجب کے وقت کہتے ہیں: ما اَولاهُ للمعروف: وہ کس قدر محسن ہے! (ثلاثی مزید فیه سے ہونے کی وجہ سے خلاف قاعدہ ہے)۔ ــــ هُ علی الیتیم: کو یتیم کے بارے میں وصیت کرنا۔ تَوَلَّی تَوَلِّیاً الأمرَ: کی ذمہ داری لینا، کو کرنا۔ ــــ فلاناً: کو ولی مقرر کرنا۔ ــــ عنه: سے روگردانی کرنا، کو چھوڑ دینا۔ ــــ هارباً: پیٹھ دے کر بھاگ جانا۔ ــــ الشیءَ: سے لازم ہونا۔ ــــ الرُطَبُ: تازہ کھجور کا خشک ہونے لگنا۔ ــــ علیّ بودّه: سے دوستی بدل دینا۔ تَوَالَیَا: پے در پے ہونا۔ کہا جاتا ہے: توالت الغنمُ عن المعز: بکریوں کا نمایاں ہونا، ممیز ہونا۔ اِسْتَوْلَی استیلاءً علیه: پر غالب ہونا، قدرت پانا۔ ــــ علی الغایة: انتہا کو پہنچنا۔ ــــ علی الشیء: پر قبضہ کرنا۔ الوالِی جمع وُلاۃ فا۔ والی البلد: شہر پر قابض، شہر کا حاکم۔ الوَلْی (مص): قرب نزدیکی، بارش کے بعد بارش۔ کہا جاتا ہے: دارُهُ وَلْیُ داری: اسکا گھر میرے گھر کے قریب ہے۔ الوَلاء: محبت، دوستی، قرب، نزدیکی، رشتہ داری، مدد، ملکیت، آزاد کردہ غلام کے مال کی میراث، یا موالات کے عہد کی بنا پر میراث۔ کہا جاتا ہے: جاؤوا وَلاءً علی وَلاءٍ: وہ ایک دوسرے کے پیچھے آئے۔ الوِلاء: رشتہ داری۔ الوَلایَة (مص) جمع وَلایَات: وہ ملک جو ایک حاکم کے زیر نگین ہو، رشتہ داری۔ کہا جاتا ہے: هم علیّ ولایَةٌ وَاحِدَةٌ: وہ سب میری مدد میں اکٹھے ہیں (یا اچھے برے کام میں یا میرے خلاف اکٹھے ہوگئے)۔ الوَلِیّ جمع اَوْلِیَة: بارش کے بعد برسنے والی بارش۔ ــــ جمع اَوْلِیاء: محبت کرنے والا، دوست، مددگار، پڑوسی، حلیف، تابع، داماد، کسی کے کام کا منتظم۔ کہا جاتا ہے: اللّٰهُ وَلِیُّكَ: اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ ونگران ہے۔ المومن ولیُّ اللّٰه: مومن اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے۔ الولی عند المسلمین: ولی جیسے عیسائیوں کے ہاں سینٹ (saint)۔ ولیُّ العهد: تخت کا وارث۔ ولیُّ الیتیم: یتیم کا سرپرست۔ وَلِیّة جمع وَلِیَّات و وَلایا: ولی کا مونث، قرب، نزدیکی، عرق گیر۔ دارٌ ولیَّة: قریبی گھر۔ الأَوْلَی تثنیه الاَولیان جمع الأَوْلَوْن والأَوَالِی مونث الوُلْیا تثنیه الوُلْیَیان جمع الوُلَی والوُلْیَیات: زیادہ حقدار، زیادہ لائق۔ کہا جاتا ہے: هو اَوْلَی بکذا: وہ اس کا زیادہ حقدار اور لائق ہے۔ اَوْلَی لَكَ: یہ کلمہ دھمکی کیلئے استعمال ہوتا ہے یعنی تباہی تمہارے قریب آچکی ہے، بچ جاؤ، بعض کے نزدیک اس کا معنی الوَیلُ لك یا اولاك اللّٰهُ ما تکرهه: تمہیں مصیبت آئے یا اللہ تمہارے ساتھ وہ کرے جو تمہیں پسند نہ ہو) ہے۔ اس صورت میں لک میں ل زائد ہوگا۔ اَوْلَی لِی اور اَوْلَی له بھی اسی طرح کہا جاتا ہے۔ المَوْلَی جمع المَوَالِی: مالک، آقا، غلام، غلام آزاد کرنے والا، آزاد کردہ غلام، انعام دینے والا، جس کو انعام دیا گیا ہو، محبت کرنے والا، ساتھی، حلیف، پڑوسی، مہمان، شریک، بیٹا، چچا، چچا کا بیٹا، بھانجا، داماد، رشتہ دار، ولی، تابع۔ المولَی سے فعل بنا کر کہا جاتا ہے: هو یَتَمَوْلَی علینا: وہ آقاؤں کی نقل کرتا ہے۔ المَولی مونث مَوْلِیَّة: وہ بچہ جو کسی کی نگرانی میں ہو۔ المَوَالِیا: ایک قسم کے اشعار جن کو گایا کرتے تھے اور آخر میں یا موالیا کہا کرتے تھے (اے ہمارے آقاؤ) عوام مَوَّال جمع مَوَاوِیل کہتے ہیں۔ المَوْلَوِی: مولا کی طرف منسوب، زاہد۔ المَوْلَوِیَّه: مولویوں کے پہننے کی ٹوپی۔ کہا جاتا ہے: فیه مَوْلَوِیَّةٌ: وہ شرفاء سے مشابہت رکھتا ہے۔ المُتَوَالِی (فا) المُتاوِلة کا واحد جس کے معنی شیعانِ علی ہے جنہوں نے حضرت علیؓ اور ان کے اہل بیت کو حاکم مقرر کیا تھا۔ المُتَوَالِیة الحسابیة: حسابی سلسلہ۔ المتوالیة الهَنْدَسیة: جومیٹریکل

(mathematical & geometrical, سلسلہ progression)۔

ولی یلی وَلْیاً ہ یا ہ: کے قریب ہونا۔ ــ ہ: کے بعد ہونا یا پڑنا، سے ملحق، متصل یا ملا ہوا ہونا۔ ــ ہ یا ہ: کے پیچھے ہونا یا آنا۔ ــ ہ: سے متصل ہونا۔ ــ وَلاءً و وِلایَۃً: کا دوست ہونا، سے دوستی کا حق ادا کرنا، سے دوستی کرنا، کی دستگیری کرنا۔ ــ وَلایَۃً و وِلایَۃً ہ یا علی: کا نگران ہونا، کا انتظام کرنا، کو چلانا، کا بندوبست کرنا، کا نظم ونسق چلانا، پر حکومت کرنا، حکمرانی کرنا، فرماں روائی کرنا، پر اقتدار رکھنا، قابو رکھنا۔ مَـا یَلِي: حسب ذیل، ذیل کا۔ کَمَـا یَلِي: حسب ذیل، اس طرح۔ فیمـا یلي: انجام کار، حسب ذیل طور پر۔ مـا یلي البدن من الملابس: انڈرویئر، نیچے پہننے کے کپڑے۔ غُرفة تلي السقفَ: چھت کے نیچے کا کمرہ۔ وَلِيَ الحکمَ: اقتدار میں آنا، حکومت پر قبضہ کرنا، حکومت سنبھالنا۔ وَلّـی ہ یـا ہ: کی طرف پیٹھ یا چہرہ کرنا۔ ــ عن یا ہ: سے بچنا، سے پہلو تہی کرنا، سے پہلو بچانا، سے کنی کترانا، سے احتراز یا گریز کرنا، سے بھاگنا، فرار ہونا۔ ــ: ادھر ادھر مڑنا، پیچھے مڑنا، گزرنا، آہستہ آہستہ گزرنا (دنوں یا سالوں کا)۔ ــ ہ: کو بطور منتظم، ناظم، ناظم اعلیٰ گورنر یا حکمران مقرر کرنا۔ ــ ہ ہ: کو کا نگران بنانا، کو کا سربراہ بنانا، کے سپرد کوئی کام یا چیز کرنا، کو کوئی کام سونپنا یا تفویض کرنا۔ وَلّاہ دُبُـرَہُ یـا وَلّاہُ ظَهْـرَہُ: کی طرف پیٹھ موڑنا۔ ولـوا عنـہ الادبـار: انہوں نے اپنی پیٹھیں اس کی طرف موڑیں، انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ وَلّـی هارِباً: بھاگ جانا، راہ فرار اختیار کرنا۔ وَلّی وجهَہُ ہ: کی طرف منہ کرنا۔ وَالَـی: دوست، مددگار، حامی، سرپرست یا محافظ یا نگہبان ہونا۔ ــ ہ: کی مدد کرنا، کو مدد دینا۔ ــ ہ: کو اکثر یا ہمیشہ کرنا، کو لگاتار کرنا، کو بلا رکاوٹ کرنا یا جاری رکھنا، کو لگاتار کرنے لگنا؛ میں لگے رہنا، کو کرتے رہنا، کے حصول کے لئے جدوجہد کرنا، کو ترقی دینا۔ ــ ہ: (وقت کے) فوراً بعد ہونا۔ ــ ہ: کے بعد ہونا۔ اَوْلَی ہ ہ: کے قریب کچھ کرنا، کی طرف پیٹھ وغیرہ کرنا، کی تحویل میں کی دیکھ بھال یا ذمہ داری دینا، کے سپرد کچھ کرنا، کو کچھ سونپنا، پر (کوئی) احسان کرنا، کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا جو نقصان دہ ہو، کے لئے کسی ناگوار چیز کا ذمہ دار ہونا، کی جانب لاپروائی وغیرہ کا مظاہرہ کرنا یا اسکا ثبوت دینا۔ اَوْلاہ ثقتہُ: پر اعتماد کرنا۔ اولاہ معروفاً: سے ہمدردی احسان وغیرہ کرنا۔ تَـوَلّـی ہ: کسی عہدہ یا منصب پر فائز ہونا، کچھ سپرد کیا جانا، سونپا جانا، کا نگران ہونا، کا قبضہ لینا، کی ذمہ داری لینا، کے فرائض سنبھال لینا، (کوئی معاملہ) ہاتھ میں لینا، پر توجہ کرنا، کی دیکھ بھال کرنا، کا انتظام کرنا، کی ذمہ داری قبول کرنا، کا ذمہ لینا، پر قابو پانا، حکومت سنبھالنا، اقتدار میں آنا۔ ــ عن: سے باز رہنا، سے احتراز کرنا، کو چھوڑنا، ترک کرنا، سے دست کش ہونا۔ تَـوَلّی الحکمَ: اقتدار میں آنا، اقتدار پر قبضہ کرنا۔ ــ تَوَلّاہُ الیأسُ: ناامیدی، مایوسی نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تَـوَالَـی: یکے بعد دیگرے یا ایک دوسرے کے بعد ہونا یا آنا، کسی رکاوٹ کے بغیر ہونا یا آنا۔ ــ علی: کے پاس لگاتار آنا، متواتر یا پے درپے آنا، میں ہمیشہ یا اکثر پہنچنا، آنا۔ ــ: جاری رہنا، ترقی کرنا، بہتر ہونا (حملہ، پیش قدمی، رفتار وغیرہ کا)۔ اِستولی علی: پر قبضہ کرنا، اپنے آپ کو کا مالک یا آقا بنانا، کو ضبط کرنا، بحق سرکار ضبط کرنا، کو سر کرنا، فتح کرنا، قابو کرنا، پر قابض ہونا، پر قابو پانا، کو زیر کرنا، کو قابو میں لانا، کو گھیرے میں لے لینا، کو قیدی بنانا، قید کرنا، گرفتار کرنا۔ وَلِي: قریب، نزدیک، پڑوس، متصل، ملحق، ملا ہوا جمع اولیاء: مددگار، حامی، محسن، ذمہ دار، ضامن، کفیل، دوست، قریبی ساجھی، شریک ہم صحبت رشتہ دار، سرپرست، محافظ، قانونی سرپرست، مہتمم، نگران استاد، ولی، ولی اللہ، آقا، مالک، قابض۔ وَلِيُّ الامر: ذمہ دار منتظم، نگران، حاکم، اتالیق، قانونی سرپرست۔ ولِـيُّ الـدم: قتل یا خون کا بدلہ یا انتقام لینے والا، قتل کے جھگڑے پر تعمیل حکم کرنے والا۔ ولِيُّ السَّجّادہ: سجادہ نشین۔ ولِـيُّ العهد: تخت کا وارث، جانشین، قائم مقام، ولی عہد (شہزادہ)۔ وَلِيُّ النِّعمَۃ: محسن۔ وَلِیَّۃ: عورت ولی، عورت، خاتون۔ وَلاء: دوستی، میل جول، ارتباط، فیض رسائی، خیر اندیشی، خیر خواہی، خیر سگالی، وفاداری، فرمانبرداری، اطاعت، انقیاد، جاں نثاری۔ معاهدۃ وَلاءٍ: دوستی کا معاہدہ۔ وَلائي: دوستانہ، پرامن، دوستی کا۔ وِلایَۃ: خودمختار یا آزاد طاقت حاکمیت، اقتدار اعلیٰ، حکم، حکومت جمع وِلایات: انتظامی ضلع جسکا سربراہ والی کہلاتا تھا، صوبہ، ریاست۔ الولایات المتحدۃ: ریاست ہائے متحدہ۔ ولایۃ العهد: تخت کی وراثت۔ ولایۃ: سرپرستی، نگرانی، قانونی، اختیار، دوستی۔ هـم علـی ولایۃٍ واحدۃ: وہ آپس میں متحد رہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اَوْلَـی ب: کا زیادہ حق دار۔ اَوْلَـی: زیادہ مستحق، زیادہ مناسب۔ ــ ب: کے لئے زیادہ موزوں، کیلئے زیادہ مناسب، زیادہ کافی۔ بِـالاَوْلَی یـا مِن بَـابِ اَوْلَـی: زیادہ بڑے سبب سے، زیادہ جائز طور پر۔ هی اولی بہ منہ: اس مرد کی نسبت یہ بات اس عورت کے لئے زیادہ قدرتی ہے، وہ عورت اس مرد سے زیادہ اس کی مستحق ہے۔ اَوْلَـوِیَّۃ: اولیت، پیش روی، برتری۔ مَـوْلَـی جمع مَوَالٍ: آقا، مالک، محافظ، سرپرست، موکل، گاہک، دوست، ساتھی، ہم صحبت۔ المَوْلَی: اللہ تعالیٰ مَوْلایَ و مَوْلانـا: فرمانروا کو مخاطب کرنے کی شکل۔ مَوْلاۃ: مالکن، بی بی، بی بی جی، بیگم صاحب، خاتون۔ مَوْلَوِي جمع مَوْلَوِیَّۃ: مولانا جلال الدین رومی کے سلسلہ کا ایک درویش۔ تَـوْلِیَۃ: بطور والی تقرر، بطور جانشین تقرر، قیمت خرید پر دوبارہ فروخت۔ وِلاء: تسلسل، تواتر، سلسلہ، جانشینی، اجراء، استمرار۔ وِلاءً یـا علی ولاءٍ: بلا روک، پے در پے، یکے بعد دیگرے۔ مَوَالاۃ: دوستی، استحکام، تسلسل، استمرار، دوام، ہمیشگی۔ اِیْلاء: شوہر کی طرف سے قسم کھا کر گواہی کے بعد کہ وہ کم از کم چار ماہ سے بیوی کے قریب نہیں گیا، شادی کی تنسیخ۔ تَوَلٍّ: عہدہ سنبھالنا۔ تَوَالٍ: مسلسل کسی کے بعد آنا یا ہونا، بے روک ترتیب یا سلسلہ، جاری رہنا۔ علی التوالی: بے روک، لگاتار، مسلسل، یکے بعد دیگرے، پے در پے، ایک ایک کرکے۔ علی توالی الایام: وقت کے دوران میں۔ بِتوالِي السنین: جیسے جیسے سال گزرتے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، کبھی نہ کبھی، دیر سویر، جلد یا بدیر۔ والٍ جمع وُلاۃ: سرکردہ، انتظامی، عاملہ، انتظامیہ، حاکم، گورنر، حاکم، والی، افسر اعلیٰ۔ وُلاۃ الامور: سرکردہ شخصیات لیڈران۔ مُوَالٍ: دوست مددگار، حامی، گاہک، موکل، جاگیر کا مزارع، مصبدار، ماتحت، پکا حامی، پیرو، حمایتی، وابستہ، وابستہ دامن، طرف دار، ہوا خواہ۔ مُـوَالِیَۃ: وابستگی، پیروی، طرف داری، ہوا خواہی، گاہک، موکل، حامی، پیرو، مرید۔ مُتَـوَلٍّ: سپرد کیا ہوا، سونپا ہوا۔ مُتَوَلِّی الاعمـال: مدار المہام، ناظم الامور (charge d'affaires)۔ مُتَوَالٍ: لگاتار، مسلسل، پے در پے، متواتر، بے روک، غیر منقطع جمع مُتاوِلۃ: ملک شام میں متوالیوں کے شیعی فرقہ کا رکن۔

وما: ا۔ وَمَـا یَمَـا وَمْـاً وَمَّاً تومِئۃً و اَیْمَاً اِیماءً بحاجبـہ او بیدہ او غیرِ ذلک: ابرو، ہاتھ وغیرہ سے اشارہ کرنا۔ وَاَمَـأ مُـوَامَاۃَ الرجُلَ: سے اتفاق کرنا، موافقت کرنا۔ المُـومَـا اِلیـہ: جس کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کا ذکر کیا گیا، مذکورہ بالا۔

۲۔ الوامِئۃ: مصیبت۔

اَوْمَأَ: اشارہ سے کہنا، سگنل کرنا، اشارات سے اطلاع دینا، انگلی سے اشارہ کرنا، علامت بتانا۔ ـــ إلی: کو واضح کرنا، کی طرف اشارہ کرنا، بتانا، دلالت کرنا، ظاہر کرنا، کے آثار ہونا۔ إیماء: جھوٹ موٹ کی حرکت یا اشارہ، اشارے، حرکتیں، اشاروں میں باتیں۔ فن الایماء: خاموش تمثیل۔ ایماءً إلی: کے متعلق، بہ لحاظ، بحوالہ۔ إیماءة جمع إیماءات: حرکت، اشارہ، سر کا اشارہ، سر کی حرکت، ابرو کا اشارہ۔ المُومَأ الیہ: مذکورہ بالا، جس کا ذکر کیا گیا۔

ومح: الوَمَحة: دھوپ کا اثر۔

ومد: ا۔ وَمِدَ یَوْمَدُ وَمَدًا تِ اللیلةُ: رات کا سخت گرم اور گھٹن والی ہونا۔ صفت: وَمِد و وَمِدَة۔ الوَمَدَة: رات کی سخت گرمی۔

۲۔ وَمِدَ یَومَدُ وَمَداً علیہ: پر غضبناک ہونا۔ کہا جاتا ہے: ہو وَمِدٌ علیہ وہ اس پر غضبناک ہے۔

وَمِد: حبس والا۔ اُمس والا، ہمس والا، برسات کا ہمس والا (دن، موسم)۔

ومز: وَمَزَ یَمِزُ وَمْزاً بأنفہ: ناک کو غصہ سے ہلانا۔ تَوَمَّزَ: اٹھنے کیلئے تیار ہونا۔

ومس: وَمَسَ یَمِسُ وَمْسًا الشيءَ بالشيء: چیز کو چیز سے رگڑنا، یہاں تک کہ چھلکا جدا ہو جائے۔ اَوْمَسَ تِ المرأةُ: عورت کا بدکار ہونا۔ ـــ العنبُ: انگور کا پکنے کیلئے نرم ہونا۔ الوَمْسَة: سفید تل۔ المومِس و المومِسة جمع مومِسات مَوَامِس و مَوَامِیس و مَیامِس و مَیامیس: بدکار اور فاجرہ عورت۔

وَمَسَ یَمِسُ وَمْسًا: رگڑ کر دور کرنا۔ ـ ہ ب: کو سے ہموار کرنا، کو سے رگڑ کر صاف کرنا، چمکانا۔ مُومِس و مُومِسَة جمع مُومِسات: طوائف، بیسوا، رنڈی، کسبی۔

ومض: وَمَضَ یَمِضُ وَمْضًا و وَمِیضًا و وَمَضانًا البرقُ: بجلی کا ہلکے سے چمکنا۔ صفت: وَامِض۔ اَوْمَضَ إیماضًا البرقُ: بجلی کا ہلکے سے چمکنا۔ ـــ الرجلُ: رمز سے اشارہ کرنا، بجلی یا آگ کی چمک دیکھنا، مسکرانا۔ ـــ تِ المرأةُ بعینھا: عورت کا دزدیدہ نگاہوں سے دیکھنا۔

وَمَضَ یَومِضُ وَمْضًا و وَمِیضًا و وَمَضانًا: چمکنا، کوندنا۔ اَوْمَضَ ہ: کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھنا، کو آنکھ سے اشارہ کرنا، کو آنکھ مارنا۔ وَمْضَة جمع وَمَضات: ایک نگاہ، ایک نظر، پلک جھپکنا، جھلملانا، روشنی کی کرن، روشنی کا عکس یا انعکاس۔ وَمِیض: جھلملاہٹ، جگمگاہٹ، چمکنا، دمکنا، ٹمٹمانا، جھپک، دمک۔

ومع: الوَمْعَة: بارش کی بوچھاڑ۔

ومغ: الوَمْغَة: لمبا بال۔

ومق: وَمِقَ یَمِقُ مِقَةً و وَمْقًا ہُ: سے محبت کرنا۔ وَامَقَ وِمَاقًا و مُوَامَقَةً ہُ: ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ تَوَمَّقَ ہُ: سے دوستی کرنا۔ تَوَامَقَ الرجلان: دو آدمیوں کا آپس میں محبت کرنا۔ الوَمِیق و المَوْمُوق: محبوب، پیارا۔

ومن: تَوَمَّنَ الرجلُ: بہت اولاد والا ہونا۔

ومہ: وَمِہَ یَوْمَہُ وَمَہاً النہارُ: دن کا بہت گرم ہونا۔

ومی: وَمَّی تَومِیَةً بالشيء: کو لے جانا۔ إِسْتَوْمَی علیہ: پر غالب آنا۔ المَوْمَاة و المَوْمَاء جمع المَوَامِي: بیابان۔

ون: الوَنّ: کمزوری، انگلیوں سے بجانے کا چنگ (عام لوگ کہتے ہیں: وَنّ الذبابُ: مکھی کا لگاتار تیز بھنبھنانا۔

وَنَّ ـ: (شہد کی مکھی کا) بھنبھنانا۔

ونب: وَنَّبَ ہُ: کو جھڑکنا، ڈانٹنا۔

ونج: الوَنَج (مو): ایک قسم کا بربط (فارسی لفظ)۔

ونح: وانح مُوَانَحَةً ہُ: سے موافقت کرنا۔

الوندل: تہذیب سوز، غارتگران جنس تہذیب (the Vandals)۔

وِنش جمع وِنْشات و أوناش: چرخی رولر کا ہتھا، دھرے کی چکر کیل، بوجھ اٹھانے کی کلی کرین۔ وِنش دوّار: بھاری بوجھ اٹھانے کی کرین۔ وِنش عائم: تیرنے والی کرین، تیرتی ہوئی کرین۔ وِنش بالید: ہاتھ کی چرخی۔

ونل: الوَنِیلة (ن): ایک پودا جو وسطی امریکی الاصل ہے۔ قدیم و جدید دونوں براعظموں کے گرم ممالک میں بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کا پھل لذیذ ہوتا ہے اس سے چاکلیٹ جیسی مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں۔

ونم: وَنَمَ یَنِمُ وَنْماً و ونیماً الذبابُ: مکھی کا بیٹ کرنا۔ الوَنْمَة و الوَنِیم: مکھی کی بیٹ۔

ونی: ا۔ وَنَی یَنِي و وَنِيَ یَوْنَی وَنْیاً و وَنِیًّا و وِناءً و وِنْیَةً و نِیَةً و وَنًی: سست ہونا، کمزور ہونا، تھکنا، صفت: وانٍ م وَانِیَة۔ ـــ ہُ: کو چھوڑ دینا۔ ـــ عن کذا: کو چھوڑ دینا، نظر انداز کرنا۔ ـــ تِ السحابةُ: بادل کا برسنا۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ لایَنِي یفعل کذا: فلاں شخص ابھی تک ایسا کرتا ہے۔ وَنَّی تَونِیَةً: کام میں سست ہونا۔ اَوْنَی إیناءً الرجلَ: کو تھکا دینا، کمزور کر دینا۔ تَوَانَی تَوَانِیًا فی حاجتہ: اپنی حاجت میں سستی کرنا، کوتاہی کرنا، لاپرواہی برتنا، دلچسپی نہ لینا۔ الُوَانِی (فا): کمزور بدن والا۔ نسیم وانٍ: نرم نرم چلنے والی باد نسیم۔ الوَنَاء: سستی۔ امرأةٌ وَنَاةٌ و أناةٌ وَانِیَّةٌ: سست حرکات والی عورت۔ الوُنُوَّة: عقل کی کمزوری۔ المِینا و المِیناء جمع مَوَانٍ و مَوَانِیّ: بندرگاہ۔ مِیناءُ الساعة: گھڑی کا ڈائل۔

۲۔ وَنَی یَنِي و وَنِيَ یَوْنَی وَنْیاً و وَنِیًّا و وِناءً و وِنْیَةً و نِیَةً و وَنَّی الکمَّ: آستین چڑھانا۔

۳۔ الوَنَاة و الوَنِیَّة: موتی۔ الوَنِّي: موتی (جمع)۔

وَنَی یَنِي و وَنِيَ یَوْنَی وَنْیاً وَنَاءً و وَنِیاً و وِناءً: بے ہوش ہونا، غش کھانا، کمزور ہونا، یا ہو جانا، تھکنا یا تھک جانا، مایوس ہونا، دل شکستہ ہونا، یاس زدہ ہو جانا، سوکھا ہوا ہونا، ازکار رفتہ ہونا، ناتواں ہونا، مضمحل ہونا، نڈھال ہونا، صحت و طاقت زائل ہو جانا، مردہ دل ہو جانا۔ لاینی: (کچھ کرنے میں) نہ تھکنا۔ بِہِمَّةٍ لاتنی: ان تھک جوش و سرگرمی سے۔ وَنَی فی: میں سست، ڈھیلا ڈھالا، لاپروا، غافل یا فرض ناشناس ہونا۔ تَوَانَی: نڈھال ہونا، مردہ دل ہو جانا، صحت و طاقت زائل ہو جانا، سستانا، ڈھیلا ہونا، سست ہو جانا، سست ہونا، کاہل الوجود ہونا یا ہو جانا، لنگڑا ہونا یا ہو جانا، پچپچا، ڈھیلا ڈھالا یا نرم ہونا یا ہو جانا۔ ـــ فی: میں ہچکچانا، پس و پیش کرنا، دفع الوقتی کرنا، منتظر رہنا۔ وَنًی: سست ہو جانا، ڈھیلا کرنا یا ہونا، سستی کاہلی، ڈھیلا پن، کمزوری، ناتوانی، سخت تھکن، غنودگی، تھکن، تھکاوٹ، ماندگی، الکسی، بے کیفی۔ وَنَاء: سست ہونا، ڈھیلا ہونا، سستی کاہلی، ڈھیلا پن، کمزوری، ناتوانی، سخت تھکن، غنودگی، تھکن، تھکاوٹ، ماندگی، الکسی، بے کیفی۔ توانٍ: تھکنا، نڈھال ہونا، آہستگی، نرمی، ڈھیلا پن، لنگڑاہٹ، بے پروائی، غفلت، بے پروائی، بے رخی، بے اعتنائی۔ وانٍ: کمزور، لاغر، ناتوان، تھکا ہوا، تھکا ماندہ۔ غیر وانٍ: نہ تھکنے والا، کم نہ ہونے والا، مسلسل، ان تھک۔ مُتَوَانٍ: کمزور، نڈھال، پژمردہ، سست رفتار، مردہ دل، سست، کاہل الوجود، ڈھیلا ڈھالا، لنگڑا، پچپچا، ڈھیلا ڈھالا، نرم، بے پروا، غافل، فرض ناشناس، آہستہ، سست، دیر کرنے والا۔

وہ: وَہْوَہَ وَہْوَہَةً فی صوتہ: غم یا گھبراہٹ کی وجہ سے بڑبڑانا۔ ـــ الأسدُ فی زَئِیرِہِ: شیر کا دھاڑنا صفت: وَہْوَاہٌ الوَہْوَہُ من الخیل: چست و تیز گھوڑا۔ الوَہْوَاہُ من الخیل: چست و تیز گھوڑا۔ رَجُلٌ وَہْوَاہٌ: بزدل آدمی۔

وہب: ا۔ وَہَبَ یَہَبُ وَہْباً و وَہَباً و ہِبَةً المالَ فلاناً

و لفلان. کومال بخشنا، ہبہ کرنا۔(ھَبْنِی فعلت
کذا: فرض کرو میں نے ایسا کیا۔ ھَبْ اِنِّی فعلت
کذا نہیں کہا جاتا۔ اس معنی میں یہ صرف امر کے صیغے
میں استعمال ہوتا ہے۔)۔۔ و وَھِبَ یَھِبُ وَھْبًا و
وَھَبًا و ھِبَۃً الرجلَ: سے فیاضی میں بڑھنا۔
وَاھَبَ مُواھَبَۃً: سے فیاضی میں مقابلہ کرنا۔
اَوْھَبَ اِیْھابًا الامرَ لفلان: کام کو کیلئے تیار کرنا۔۔
الشیءَ لفلان: چیز کو حاصل کرنا کسی کیلئے ممکن ہونا۔
۔۔ الشیءُ لَہٗ: کیلئے زیادہ و بکثرت ہونا کہ وہ اسے
عطا کر سکے۔ کہا جاتا ہے: او ھبتُ لکذا: میں نے
اس پر قدرت پائی۔ تَواھَبَ القومُ: ایک دوسرے
کو ہبہ کرنا۔ اِتَّھَبَ اِتِّھابًا الھِبَۃَ: ہبہ قبول کرنا۔
اِسْتَوْھَبَ اِسْتِیْھابًا الھِبَۃَ: ہبہ طلب کرنا۔۔۔
فلانًا و من فلان الھِبَۃَ: سے ہبہ مانگنا۔ الھِبَۃ:
بخشش، عطیہ۔ جمع ھِبات۔ الوَھّاب و الوَھّابَۃُ
و الوَھُوب. بہت ہبہ کرنے والا۔ المَوْھِب: عطیہ
دینا، عطیہ۔ المَوْھِبَۃ: عطیہ دینا، عطیہ، انعام، بخششیں،
عطیہ۔ و المَوْھَبَۃ و المَوْھِبَۃ جمع مَواھِب:
عطیہ، عطا کردہ چیز۔
۲۔ المَوْھِبَۃ و المَوْھَبَۃ جمع مَواھِب: پانی کا چھوٹا
تالاب۔
ⓒ وَھَبَ یَھَبُ وَھْبًا ہ ۂ ما لا: کو کوئی چیز دینا،
عطا کرنا، بخشنا، پیش کرنا۔ وَھَبَتْہُ من ذات نفسہا:
اس نے آپ کو اسے کھل کر دے دیا۔ ھَبْ: فرض کرو
کہ۔ ھبنی فعلت: فرض کرو میں نے کیا۔ ھَبْنِی
ھُنَسِی: فرض کرو میں ..... یا میں .....
وَلْنَھَبْ ان: آؤ فرض کریں کہ ..... ھِبَۃ جمع
ھِبات: تحفہ، عطیہ، گرانٹ۔ عَقْدُ الھِبَۃ: ہبہ نامہ۔
وَھْبَۃ: بخششیں، انعام، عطیہ۔ وَھّابِی: وہابی۔
الوھابیۃ: وہابیت۔ مَوْھِبَۃ جمع مَواھِب: تحفہ،
طبائی، جوہر، صلاحیت، ذہانت۔ اِیْھاب: عطیہ، عطا
(کرنا)۔ وَاھِبٌ: دینے والا، عطا کرنے والا۔
مَوْھُوب: دیا ہوا، عطا شدہ، تحفہ میں دیا ہوا، ذہین
جوہر قابل، طباع۔ مَوْھُوب لَہٗ: تحفہ یا گرانٹ
(امداد) وصول کرنے والا، مراد یا عطیہ پانے والا، وہ
جسے عطیہ ملے۔
وھت: ا۔ وَھَتَ یَھِتُ وَھْتًا الشیءَ: کو دبانا، سختی سے
روندنا۔ الوَھْتَۃ جمع وَھْت: پست زمین۔
۲۔ اَوْھَتَ اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ لحمٌ
مُوھِتٌ: بدبودار گوشت۔
وھث: وَھَثَ یَھِثُ وَھْثًا و وَھَثَۃً فی الشیءِ: میں
، مشغول ہونا۔ الشیءَ: کو سختی سے روندنا۔ تَوَھَّثَ
تَوَھُّثًا فی الامر: پر خوب غور کرنا۔
وھج: وَھَجَ یَھِجُ وَھْجًا و وَھِیْجًا و وَھَجانًا تِ
النارُ او الشمسُ: آگ یا سورج کا روشن ہونا۔
اَوْھَجَ النارَ: آگ بھڑکانا۔ تَوَھَّجَ: بھڑکنا۔۔۔
الحرُّ: گرمی کا تیز ہونا۔۔ یومُنا: دن کا سخت گرم
ہونا۔۔۔ الجوھرُ: ہیرے کا چمکنا۔۔۔ ت رائحۃُ
الطیب: خوشبو پھیلنا۔ الوَھَج: آگ کی بھڑک،
سورج کی چمک، آگ یا سورج کی دور سے تپش۔
وَھَجُ الطیب: خوشبو کی مہک۔ یومٌ وَھِیجٌ: سخت
گرم دن۔ الوَھّاج: تیز بھڑکنے والا۔ نجم
وَھّاجٌ: روشن ستارہ اسی طرح سراج وھاج: روشن
لیمپ۔ یومٌ وَھْجانٌ: سخت گرم دن۔ الوَھِیج
(مص) جلنا، گرمی۔ وَھِیجُ الطیب: خوشبو کی
مہک۔
ⓒ وَھَجَ یَھِجُ وَھْجًا و وَھَجانًا: دمکنا، تمتمانا، جلنا،
چمکنا، بھڑک اٹھنا، شعلے نکلنا، تاباں ہونا، تابندہ ہونا،
کرن یا شعاع نکلنا، روشن ہونا، جگمگانا، درخشاں ہونا،
بھڑکنا، رہ رہ کر چمکنا، جھلکنا، جھلملانا۔ اَوْھَجَ ہ:
آگ روشن کرنا، جلانا۔ تَوَھَّجَ: جلنا، دہکنا، دمکنا،
لہکنا، لال ہونا، شعلہ زن ہونا، روشن ہونا، چمکنا، مشتعل
ہونا، بھڑک اٹھنا، جلتا ہوا ہونا، چمکتا ہوا ہونا، دمکتا ہوا
ہونا، شعاع نکلنا، جگمگانا، تاباں ہونا، درخشاں ہونا،
بھڑکنا، رہ رہ کر چمکنا، جھلکنا، جھلملانا۔ وَھَج: آگ،
شعلہ، لپٹ، سخت تپش، روشنی، تابانی، سورج کی چندھیا
دینے والی یا خیرہ کن روشنی۔ وَھّاج: سخت گرم، دہکنے
والا، تمتمانے والا، لال ہونے والا، جلتا ہوا، چمکتا ہوا،
دہکتا ہوا، زیادہ گرم ہونے والا، بھڑکتا ہوا، شعلہ زن،
روشن، نور افشاں، چمکیلا، دفعۃً شعلہ بنکر بھڑک اٹھنے
والا، روشن، تابان، چمک دار، تیز طبع، ذہین، شعاع
افشاں، تابندہ، فروزاں۔ نورٌ وَھّاج: خیرہ کن
روشنی۔ ذھبٌ وَھّاج: چمکتا ہوا سونا۔ وَھِیج:
آگ، تیز شعلہ، بھڑک، آب و تاب، سخت گرمی، روشنی
تابانی، سورج کی چندھیا دینے والی یا خیرہ کن روشنی۔
وَھَجان: آگ، تیز شعلہ، بھڑک، آب و تاب،
(دمک)، سرخی، تمتماہٹ، جوش، حرارت
وھد: وَھَّدَ لَہُ الفراشَ: کے لئے فرش بچھانا۔ تَوَھَّدَ
الفراشُ: فرش بچھنا۔ الوَھْد جمع اَوْھُد و
وُھْدان: پست زمین۔ مکانٌ وَھْدٌ: پست جگہ۔
الوَھْدَۃ جمع وِھاد و وَھْد: پست زمین، گڑھا۔
ⓒ وَھَّدَ ھ ل: کو کے لئے ہموار کرنا، برابر کرنا، تیار کرنا۔
وَھْد: نشیبی زمین، نشیبی میدان، نشیب، گڑھا۔ وَھْدَۃ
جمع وِھاد و وُھْد: نشیب، گڑھا، نشیبی زمین، اتھاہ
گہرائی، قعر، تحت الثری یا پاتال، کھڑی چٹان، زمین
میں گہرا خوفناک شگاف، گہرا گڑھا، تنگ گھاٹی، گہری
گھاٹی، گراوٹ، پستی، اخلاقی پستی۔ اَوْھَد: نیچا،
پست، نشیبی، نشیب میں واقع، نیچے کو دبایا ہوا۔
وھر: وَھَرَ یَھِرُ وَھْرًا و وَھَرَۃً: کو ناقابل خلاصی شکل
میں ڈالنا۔ تَوَھَّرَ اللیلُ او الشتاءُ: رات یا سردی
کے اکثر حصہ کا گزر جانا۔۔۔ ہ فی الکلام: گفتگو میں
کسی کو حیران کر دینا، شپٹا دینا۔ لَھَبٌ واھِر: چمکدار
شعلہ۔ الوَھْر: دھوپ میں رقص کناں گرمی کی لہریں،
الوَھْرَۃ: ناقابل خلاصی شکل میں پھنسنا۔ عام لوگ
کہتے ہیں: فلانٌ ذو وَھْرَۃٍ: فلاں ہیبت اور وقار والا
ہے۔ الوَھْران: خائف، ڈرنے والا۔
۲۔ اِسْتَوْھَرَ و اِسْتَیْھَرَ اِسْتِیھارًا بہ: پر یقین کرنا۔
ⓒ وَھَرَ یَھَرُ وَھْرًا و وَھَرَۃً ہ: کو مشکلات میں پھنسانا، کو ڈرا
دینا، خائف کرنا۔ وَھْرَۃ: بمعنی وَھَرَۃ۔ نیز
وَھَّرَہٗ: کو پریشان کر دینا، تکلیف دینا، کو بوکھلا دینا۔
وَھْرَۃ: خوف، ڈر، دہشت ہیبت، سخت خوف، ہول،
اندیشہ، کھٹکا، سراسیمگی، یاس، مایوسی، حزن۔ وَھْران:
شمالی مغربی الجزائر کی بندرگاہ: اوران ORAN)
(seaport in NW Algeria)۔
وھز: وَھَزَ یَھِزُ وَھْزًا و وَھْزَۃً: کو روندنا، کو ہاتھ سے ہٹانا یا
مارنا۔۔۔ ہ علی کذا: کو کسی ترغیب دینا۔۔۔
الشیءَ: کو توڑنا، کوٹنا۔۔۔ القملۃَ بین اصابعہ:
جوں مارنا۔ وَھَّزَہٗ: کو بوجھل کرنا۔ تَوَھَّزَ: زور سے
روندا جانا، ست چال چلنا، بوجھل قدموں سے چلنا۔
۔۔۔ خلفَ فلان: پر پیچھے سے کودنا۔ کہا جاتا ہے: مَرَّ
یَتَوَھَّزُ: وہ زمین کو سخت دباتے ہوئے گزرا۔ الوَھْز
(مص) پستہ قد، مضبوط آدمی۔ الوَھّازَۃ: باحیا
عورت کی چال۔ الاَوْھَز: اچھی چال والا۔ المُوَھَّز
و المُوَھِّز: بہت دبا کر چلنے والا، سخت روندنے والا۔
وھس: ا۔ وَھَسَ یَھِسُ وَھْسًا الشیءَ: کو توڑنا، کوٹنا،
سخت روندنا۔۔۔ الرجلُ: تیز چلنا۔۔۔ علی قومہ:
اپنی قوم پر ظلم کرنا۔ واھَسَ مُواھَسَۃً: تیز چلنا۔
تَوَھَّسَ تِ الابلُ: اونٹوں کا اچھی چال چلنا۔ کہا جاتا
ہے: تَوَھَّسَ الارضَ فی مشیتہ: اس نے اپنی
چال میں زمین کو بہت دبایا۔۔۔ و تَواھَسَ: ست
چال چلنا، تیز چلنا۔ الوَھْسَۃ: شارع عام۔ الوَھّاس:
مبالغہ کا صیغہ: (ح) شیر۔
۲۔ وَھَسَ یَھِسُ وَھْسًا فی الامر: میں حیلہ کرنا۔

وَاهَصَ مُوَاهَصَةً ہٗ: سے جھگڑنا۔ الوَهْص (مص): برائی، چغلی۔

وهص: وَهَصَ يَهِصُ وَهْصاً الشيءَ الرخوَ: نرم چیز کو توڑنا، کوٹنا، سخت روندنا، زور سے پھینکنا، زمین پر پٹکنا۔ ــ الرأسَ: سر پھوڑنا۔ ــ الحيوانَ: جانور کو خصی کرنا۔ الوَهْصَة: وہص کا اسم مرة، پست زمین۔ الوَهّاص: بہت فیاض۔ المَوْهِص جمع مَوَاهِص: پست زمین۔ المَوْهُوص و المُوَهَّصُ الخَلْق: مضبوط گٹھیلا آدمی۔

وهض. الوَهْضَة: پست زمین۔

وهط: وَهَطَ يَهِطُ وَهْطاً ہٗ: کو توڑنا، روندنا، نیزہ مارنا، مارنا۔ ــ الرجُلُ: کمزور وست ہونا۔ اَوْهَطَ ہٗ: کو کمزور کرنا، ست کرنا، کو خوب مارنا پیٹنا، کی خوب مرمت کرنا کو، پچھاڑنا، کو مصیبت میں ڈالنا۔ ــ جناحَ الطائرِ: پرندہ کا بازو توڑنا۔ تَوَهَّطَ: ٹوٹنا، روندا جانا، نیزہ مارا جانا، مار کھانا۔ ــ الفراشَ: فرش بچھانا۔ ــ فی الطین: نرم مٹی میں غائب ہونا۔ الوَهْط (مص) جمع اَوْهَاط: لاغری، جماعت۔ کہا جاتا ہے: بینهم اَوْهاطٌ: ان کے درمیان جھگڑے اور شور و شرغُل ہیں۔ الوَهْطَة جمع وَهْط و وِهَاط: پست زمین۔

وهف: ۱۔ وَهَفَ يَهِفُ وَهْفاً و وَهِيفاً اِلی کذا: کے قریب ہونا۔ ــ لَهٗ شیءٌ من الدنیا: دنیا کی کوئی چیز کسی کے سامنے آنا، ظاہر ہونا۔ وَهْفاً و وِهافةً النصرانیُّ: گرجا کی خدمت بجالانا۔ اَوْهَفَ اِیهافاً الشیءَ اِلی کذا: کے قریب ہونا۔ ــ لَهُ الشیءُ: کے سامنے آنا، ظاہر ہونا۔ الواهِف (فا): گرجے کا محافظ، منتظم یا خادم۔ الوِهافة والوُهْفِية: گرجے کا نظام۔

۲۔ وَهَفَ يَهِفُ وَهْفاً وَهِيفاً النباتُ: نباتات کا سبز اور پتے والی ہونا۔

وهق: ۱۔ وَهَقَ يَهِقُ وَهْقاً الدابّةَ: جانور کی گردن میں رسی ڈالنا۔ ــ ہٗ عن کذا: کو سے روکنا۔ کہا جاتا ہے: لفؤادٌ عندکم مَوْهُوقٌ: دل تمہارے پاس اٹکا ہوا ہے۔ اَوْهَقَ الدابّةَ: جانور کی گردن میں رسی ڈالنا۔ تَوَهَّقَ فلاناً فی الکلام: گفتگو میں کسی کو حیران کرنا۔ الوَهْق و الوَهَقُ جمع اَوْهاق: جانور کی گردن میں ڈال کر پکڑی جانے والی رسی۔

۲۔ وَاهَقَ مُوَاهَقَةً العیرُ البعیرَ: اونٹوں کا چلنے میں گردن لمبی کر کے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ ــ تَوَاهَقَ القومُ فی الامر: لوگوں کا مساوی طور پر ایک ہی کام کرنا یا اس میں مقابلہ کرنا۔ ــ ت الإبلُ: چلنے میں اونٹوں کا گردن لمبی کر کے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ ــ الساقیان: دو ساقیوں کا آپس میں مقابلہ کرنا۔

۳۔ تَوَهَّقَ الحصی: کنکریوں کا دھوپ سے گرم ہونا۔

☾ الوَهْق و الوَهَق جمع اَوْهاق: مویشی پکڑنے کی کمند۔

وهل: وَهَلَ يَهِلُ وَ يَوْهَلُ وَهْلاً اِلی الشیء: کسی کا ایسی چیز کی طرف وہم جانا جس کا ارادہ نہ ہو۔ وَهِلَ يَوْهَلُ وَهَلاً فی الأمر وعنه: کسی کام میں غلطی کرنا، کو بھولنا۔ تَوَهَّلَ ہٗ: کو غلطی میں ڈالنا۔

۲۔ وَهِلَ يَوْهَلُ وَهَلاً: کمزور ہونا، گھبرانا۔ صفت: وَهِل۔ ــ الیه: کے پاس پناہ لینا، کے پاس بھاگ کر چلے جانا۔ وَهَّلَ ہٗ: کو خوفزدہ کرنا، کو گھبرا دینا۔ اِسْتَوْهَلَ: کمزور ہونا، گھبرانا۔ الوَهَل و الوَهْلَة: گھبراہٹ، خوف۔ کہا جاتا ہے: لقیتُهٗ اَوَّلَ وَهْلَةٍ او وَهَلَةٍ او وَاهِلَةٍ: میں نے اس سے سب سے پہلے ملاقات کی۔

☾ وَهِلَ يَوْهَلُ وَهَلاً: ڈرنا، خوفزدہ ہونا، دہشت زدہ ہونا، چھکے چھڑنا، گھبرانا۔ وَهَّلَ ہٗ: کو ڈرانا، خائف کرنا، دھمکانا، پر رعب ڈالنا، کو مرعوب کرنا، کے دل میں دہشت ڈالنا۔ وَهَل: ڈر، دہشت، خوف، کھٹکا، اندیشہ، ہول، سراسیمگی، یاس، مایوسی، حزن۔ وَهْلَة: خوف، دہشت، لحظ، لحہ، آن، گھڑی۔ لأوّلِ وَهْلَةٍ: پہلی نظر پر، فوراً۔ فی الوَهْلَةِ الأُولی: پہلے، شروع شروع میں۔

وهم: ۱۔ وَهَمَ يَهِمُ وَهْماً فی الشیء: کو غلط سمجھنا، کے بارے میں غلط خیال ہونا، کا غلط تصور رکھنا۔ ــ الشیءَ: کا تصور کرنا، کی تصویر ذہن میں قائم کرنا، کا خیال کرنا، کو سمجھنا، کا تخیل کرنا۔ وَهِمَ يَوْهَمُ وَهَماً فی الحساب: حساب میں غلطی کرنا۔ وَهَّمَ ہٗ: کو وہم میں ڈالنا۔ اَوْهَمَ اِیهاماً: وہم میں پڑنا۔ ــ ہٗ: کو وہم میں ڈالنا۔ ــ فلاناً بکذا: پر کی تہمت لگانا، بدگمانی کرنا۔ ــ کذا من الحساب: حساب سے کچھ نکال دینا۔ ــ الشیءَ: کل چیز چھوڑ دینا۔ اَتْهَمَ ہٗ بکذا: پر کی تہمت لگانا، بدگمانی کرنا (صحیح اِتَّهَمَہٗ ہے) تَوَهَّمَ الأمرَ: پر شبہ ہونا، کو مشکوک سمجھنا، کے وجود کا تصور کرنا۔ ــ فیه الخیرَ: کے اندر خیر معلوم کرنا۔ اِتَّهَمَ ہٗ بکذا: پر کی تہمت لگانا۔ ــ ہٗ فی قولِه: کے بیان کی صداقت پر شک کرنا۔ ــ الرجُلُ: متہم ہونا، پر تہمت لگنا۔ الواهِمة: قوت وہمیہ۔ الوَهْم (مص) [illegible] وہم میں پڑنے والا خیال، قوت وہمیہ، جس سے محسوسات کے جزوی معانی دریافت ہوتے ہیں۔ جیسے زید کی سخاوت یا شجاعت، یہ قوت بکری میں بھی ادراک کی جاتی ہے جیسے بھیڑیئے سے بھاگنا ہے اور مادہ میں بھی جیسے بچے سے ہمدردی کرنی ہے۔ احتساب، خوف (کہا جاتا ہے: ولا وَهْمَ من کذا: یہ ضروری ہے: الوَهْمی: وہم سے منسوب، وہمی۔ التُهْمة و التُهَمة جمع تُهَم و تُهَمات: تہمت، الزام، شک۔ التَهِم: مشکوک۔ المَوْهُوم من الأشیاء: وہ چیز جس کی طرف وہم جائے۔

۲۔ اَتْهَمَ: تہامه: میں داخل ہونا۔ تِهامَة: شمال میں جزیرہ نما سیناء سے جنوب میں یمن کے اطراف تک پھیلا ہوا تنگ ساحلی علاقہ جس میں نجران، مکہ، جدہ اور صنعاء واقع ہیں)۔

۳۔ الوَهْم جمع اَوْهام و وُهُم و وُهُوم: کشادہ راستہ، بڑا آدمی، مضبوط، موٹا اور سدھایا ہوا اونٹ۔ الوَهْمَة: موٹی اونٹنی۔

☾ وَهَمَ يَهِمُ وَهْماً: تصور کرنا، خیال کرنا، یقین کرنا، فرض کرنا، قیاس لگانا، قیاس آرائی کرنا، اندازہ لگانا۔ ــ فی: سے غلط مطلب لینا، کو غلط معنی پہنانا، سے غلط معنی نکالنا، کی غلط تاویل کرنا، کی غلط تعبیر کرنا، کے متعلق غلط خیال کرنا۔ وَهِمَ يَوْهَمُ وَهَماً فی: میں یا کے بارے میں غلطی کرنا، غلطی پر ہونا۔ وَهَّمَ و اَوْهَمَ ہٗ: میں وہم، بدظنی، بدگمانی، تعصب یا بے بنیاد خوف ڈالنا۔ ــ ہٗ أن: کو یقین دلانا کہ۔ تَوَهَّمَ ہٗ: کے وقوع سے پہلے اس کا اندیشہ کرنا، کے وجود پر شک کرنا، فرض کرنا، تصور کرنا، کے مغالطہ میں ہونا، کی خوش فہمی میں ہونا۔ ــ ہ ہ: کو کچھ سمجھنا، یقین کرنا، کو کچھ خیال کرنا، کو غلطی سے کچھ سمجھنا۔ اِتَّهَمَ ہٗ: پر شک کرنا۔ ــ ہ: پر شک کرنا، کے متعلق شک ظاہر کرنا یا محسوس کرنا، کے متعلق شبہات رکھنا۔ ــ ہ ب: پر کا الزام لگانا، پر کی تہمت لگانا، کو سے منسوب کرنا، پر کا شبہ کرنا، کو کا قصوروار گرداننا، کو کا الزام دینا، پر کی تہمت دھرنا، پر کا الزام عائد کرنا۔ تُهْمَة: تہمت، اتہام، الزام، شک، چوٹ (در پردہ الزام)۔ وَهْم جمع اَوْهام: پرفریب تصور، غلط تاثر یا خیال، تصور، تخیل، مغالطہ، وسوسہ، توہم۔ یقین، عقیدہ، اعتقاد، اٹکل، اندازہ، قیاس، تعصب، غلطی، خود فریبی، خیال، وہم، شبہ، شک، بدگمانی، بے اعتمادی، بدقسمتی کے آنے کا احساس، برا اندیشہ، پیش اندیشگی۔ وَهْمی: خیال کیا ہوا، یقین کیا ہوا، تصور کیا ہوا، قیاسی، فرضی، موہوم،

ذہنی، تصوری، ظاہری، نمایاں، عیاں، آشکارا، فرض کیا ہوا، فرضی، مفروضہ، پرفریب۔ امراض نفسیہ و وھمیۃ: جذباتی ونفسیاتی بیماریاں۔ وَھْمِیَۃ: ہوّا، ذہنی صورت، وہم کی پیداوار، وسوسہ، توہم، قیاس، قیاس آرائی، مفروضہ، یقین، تصوری قوت، قوت متخیلہ، پرواز خیال، قوت تخلیق، خیال آرائی، تصور۔ اِیہام جمع ایہامات: دھوکہ، فریب، فراڈ، ٹھگی، غلط راہ پر لگانا، غلط خیال دلانا، غلطی کرانا، سراب، وسوسہ، خیال خام، تصور خیال۔ رفع الایہام: تصحیح۔ تَوَھُّم: شک وشبہ، بدگمانی، قوت متخیلہ، تصور۔ اِتِّہام: شک کرنا، الزام لگانا، الزام، تہمت، فرد جرم لگانا۔ دائرۃ الاتہام: استغاثہ، استغاثہ دائر کرنے کا مجاز۔ قرار الاتہام: دعوی، نالش۔ ورقۃ الاتہام: فرد جرم کا بل۔ اِتِّہامِیۃ: فرد جرم۔ ہیئۃ الاتہامیۃ: استغاثہ دائر کرنے کا افسر مجاز، استغاثہ۔ واھِمَۃ: تصور، قوت خیال، قوت واہمہ، خیالی شکلیں پیدا کرنے والی طاقت۔ مَوْھُوم: تصور کیا گیا، خیال کیا گیا، گمان کیا گیا، قیاس کیا گیا، قیاسی، فرضی، موہوم، ذہنی، صوری، عجیب سراب آسا، وہمی، خیالی، عجیب و غریب۔ مُتَّھِم: الزام لگانے والا، الزام عائد کرنے والا، استغاثہ۔ مُتَّھَم: مشتبہ، شکی، مشکوک، ملزم، جس پر الزام لگایا گیا ہو، جس پر الزام عائد کیا گیا ہو، مدعا علیہ۔ متھم المنظر: مشتبہ نظر آنے والا۔

وھن: ۱۔ وَھَنَ یَھِنُ وَھْنًا: کو کمزور کرنا۔ ـــ و وَھُنَ یَوْھُنُ وَھْنًا و وَھَنًا: معاملہ کام یا بدن میں کمزور ہونا۔ وَھِنَ یَھِنُ وَھْنًا و وَھِنَ یَوْھَنُ وَھْنًا بمعنی: وَھُنَ۔ وَھَّنَ و اَوْھَنَ ہٗ: کو کمزور کرنا۔ تَوَھَّنَ الطائرُ: پرندہ کا مردار زیادہ کھانے سے اڑنے پر قادر نہ ہونا۔ ـــ البعیرُ: اونٹ کا لیٹنا۔ الواھِن (فا): کمزور (ع ا): کندھے کی ایک رگ۔ الواھِنۃ: واہن کا مونث، کمزوری، بازو، گردن کا مہرہ۔ (طب): بڑھاپے میں بازو اور کندھے میں پیدا ہونے والی ریح کی ایک بیماری سب سے نچلی پسلی کہا جاتا ہے۔ انہ لشدید الواھنتین: وہ مضبوط، سینے والا۔ الوَھْن (مص) من الرجال او الابل: موٹا اور پستہ قد آدمی یا اونٹ۔ ـــ و الوَھَن: کام، معاملہ یا بدن کی کمزوری۔ الوَھْنانۃ من النساء: ناز پروردہ ہونے کی وجہ سے کام میں ست عورت۔ الوَھُون: کمزور۔ المَوْھُون م مَوْھُونۃ: کمزور۔

۲۔ وَھَنَ یَھِنُ وَھْنًا و اَوْھَنَ الرجلُ: آدمی رات میں داخل ہونا۔ الوَھْن من اللیل: آدھی رات یا اس کے بعد کا کچھ حصہ۔ المَوْھِن من اللیل: آدھی رات یا اس کے بعد کا کچھ حصہ۔

☪ وَھَنَ یَھِنُ و وَھِنَ یَھِنُ و وَھُنَ یَوْھُنُ وَھْنًا و وَھَنًا فی: کیلئے کمزور ہونا، کیلئے طاقت نہ رکھنا، کے قابل نہ ہونا۔ ـــ : کمزور ہو جانا، نڈھال ہو جانا، طاقت یا ہمت گنوانا یا کھونا۔ لا یَھِنُ: ان تھک۔ وَھَّنَ ہٗ: کو کمزور کرنا، کی طاقت ختم کر دینا، کی حوصلہ شکنی کرنا، دل شکنی کرنا، کے اوسان خطا کر دینا۔ ـــ ہٗ: کو کمزور سمجھنا یا قرار دینا۔ اَوْھَنَ ہٗ: کو کمزور کرنا، کی حوصلہ شکنی کرنا۔ وَھْن: کمزور، لاغر۔ وَھْن و وَھَن: کمزوری لاغری، از کار رفتگی۔ وَھِین: فورمین، اوورسیر۔ مَوْھِن: رات کی گہرائی۔ واھِن جمع وُھُن: کمزور، لاغر، کمزور کیا ہوا، مضمحل، اوسان خطا کیا ہوا، از کار رفتہ، ناتوان، تھکا ہوا، دل شکستہ، یاس زدہ۔

وھی: وَھَی و وَھِیَ یَھِی وَھْیًا الثوبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ ـــ الشیءُ: چیز کا ڈھیلے بندھن والا ہونا، بوسیدہ ہونا، کمزور ہونا۔ ـــ الحائطُ: دیوار کا گرنے کے قریب ہونا، گرنا۔ ـــ السحابُ: بادل کا موسلا دھار برسنا۔ ـــ الرجلُ: مرد کا بے وقوف ہونا۔ اَوْھَی اِیھاءً فلانًا: کو کمزور کرنا، خراب کرنا۔ کہا جاتا ہے: ضَرَبَہٗ فاوھی یدہ: اس کو مار کر اس کا ہاتھ توڑ دیا اس کو ایسا ہی نقصان پہنچایا۔ الواھِی جمع واھُون و وُھَاۃ مونث واھیۃ (فا)۔ الوَھْیُ (مص) جمع وُھِیّ و اَوْھِیۃ: دراڑ، پھٹن۔ الوَھْیۃ: اسم مرہ، دراڑ، پھٹن۔ الوَھِیّۃ: موٹی، ذبح کرنے کا موٹا جانور۔ الاُوْھِیَّۃ: پہاڑ کی چوٹی سے وادی تک کا فاصلہ۔

۲۔ واہِ و واہٍ و واھًا و واھًا لہٗ و بہ: وہ کیسی عمدہ چیز ہے! (تعجب کا کلمہ)۔ واھًا علی ما فات: افسوس اس پر جو ہاتھ سے جاتا رہا (رنجیدگی کا کلمہ)۔

☪ وَھَی یَھِی وَھْیًا و وَھِیَ وَاھًا: کمزور ہونا، ناتوان ہونا، اخلاقی کمزوری والا ہونا۔ اَوْھَی ہٗ یا من: کو کمزور کرنا، کو ختم کرنا، کی جڑیں کھوکھلی کرنا۔ واہٍ جمع وُھَاۃ: کمزور، ناتواں، پتلا، بے عصمت (عورت)، نازک، جلدی ٹوٹ جانے والا، پھونک، بے لوچ نرم، بھربھرا، خستہ، جو کہ بآسانی ریزہ ریزہ ہو جائے، ناپائیدار، بودا، غیر مادی، غیر ضروری، غیر اہم، معمولی، ناکارہ، غیر مستحکم، بے بنیاد (عذر، استدلال)۔

ویا: وَیْ: کلمہ تعجب جیسے: وَیْ لِزیدٍ: مجھے زید سے تعجب ہے، ڈانٹ کے لئے بھی آتا ہے اور ویل سے کنایہ ہوتا ہے: وَیْکَ استمع قولی: تیرا برا ہو میری بات کو غور سے سن (اصل میں ویلک ہے)، دھمکی کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے: وَیْ بِکَ یا فلان۔

☪ وَیْ: شامت اعمال! شرم! شرم!

ویب: وَیْبٌ: بمعنی وَیْل۔ وَیْبَکَ و وَیْبٌ لکَ و وَیْبٌ لزید و وَیْبًا لہٗ: افسوس تجھ پر افسوس زید پر افسوس۔ و وَیْبٌ لہٗ: (جر کے ساتھ) اور وَیْبِہٖ و وَیْبِ غیرہ: (کسرہ اور ضمیر اور ظاہر لفظ کی طرف اضافت کے ساتھ)۔ و ویبَ زید: (فتح اور اضافت کے ساتھ) وَیْبُ فلانٍ: (کسرہ اور رفع کے ساتھ) ان سب کا معنی الزمہ اللہ ویلاً: اللہ تعالی مصیبت اس کے گلے منڈھے! تعجب کے مقام پر بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے: وَیْبًا لھذا: یہ کتنا غیر معمولی ہے۔ اس کے لئے تعجب ہے۔ الوَیْبَۃ: مصیبت، شرمندگی۔ (الوَیْلَۃ کی طرح)۔ جمع وَیْبات ۲۲ یا ۲۴ مُدّ (ایک پیمانہ کا نام)۔

ویح: وَیْحٌ: رحم اور ترس کھانے کا کلمہ، کبھی مدح و تعجب کے موقع پر آتا ہے اور کبھی ویل کے معنی بھی دیتا ہے۔ وَیْحٌ لزید و ویحًا لزید و وَیْحَہٗ: زید کیسا ناخوش ہے! وَیْحَہٗ: اس پر ہلاکت ہو۔ الواحُ و الواحۃ: الواحات کا واحد: ریگستان میں سبزہ زار۔

☪ ویح: حیف! افسوس، ہائے ہائے۔ وَیْحَکَ: تجھ پر ہلاکت ہو۔ ویحًا لِ: اس پر ہلاکت ہو۔

ویخ: وَیْخ بمعنی وَیْح۔

☪ وَیْرکو: خراج (جو زمانہ قدیم میں مصر کی طرف سے ترکی سلطان کو ادا کیا جاتا تھا)، آبکاری ٹیکس، غیر منقولہ جائداد کا ٹیکس۔

ویس: وَیْسٌ: بمعنی وَیْح۔ الوَیْس: محتاجی، چاہی ہوئی چیز، ناچاہی ہوئی چیز۔ الویستاریا (ن): ایک قسم کا پودا، اس پر بڑے بڑے پھول لگتے ہیں، اس سے دیواریں وغیرہ چھپانے کا کام لیا جاتا ہے۔

ویک: وَیْکَ: وی اور کاف خطاب سے مرکب کلمہ، تعجب، تجھ پر ہلاکت ہو۔

ویل: وَیَّلَ تَوْیِیلاً فلانًا و لفلان: کسی کے لئے بہت ویل کہنا۔ تَوَیَّلَ: مصیبت کی دعا کرنا، یا ویلی کہنا۔ تَوَایَلَ الرجلان: ایک دوسرے کے لئے برائی چاہنا۔ الوَیْل: شر اور برائی کا نزول، ہلاکت، مصیبت۔ کہا جاتا ہے: وَیْلَہٗ وَیْلَکَ وَیْلِی ویلٌ لزید و ویلًا لہ: اس پر، تجھ پر، مجھ پر، زید پر ہلاکت ہو۔ اللہ ہلاکت اس کے گلے منڈھے۔ ویلًا لہ الزمہ اللہ

ویــــلا کے معنی میں ہے۔ رفع ابتداء کی وجہ سے ہوتا ہے جب کہ اضافت نہ ہو۔ ویلٌ وائِل و وئیلٌ و وَیّل: بہت سخت مصیبت۔ الوَیْلَۃ جمع وَیْلات: مصیبت، آزمائش، شرمندگی، فضیحت۔ وَیْلُمِّـہٖ: مرکب کلمہ بمعنی ویلٌ لامہ۔ اصل معنی کسی شخص کے لئے بددعاء، پھر یہ کلمہ تعجب و استحسان کے موقع پر استعمال ہونے لگا جس طرح کہا جاتا ہے: قاتلہُ اللّٰہ اورلاأب لکَ۔ رَجُلٌ وَیْلُمِّہٖ و وَیْلِمِّہٖ: (لام کی پیش اور زیر کے ساتھ): تیز فہم آدمی۔

○ وَیْل: بلا، مصیبت، دکھ درد، تکلیف، مصیبت، اذیت، تنگ دستی، احتیاج، دشواری، بدبختی، رنج، غم، الم، سوگ۔ وَیْلٌ لکَ یا وَیْلَکَ: تمہیں مصیبت آئے۔ وَیْلَۃ جمع وَیْلَات: مصیبت، گرفت، بلا، بدبختی، آسمانی مصیبت، ناگہانی مصیبت، شامت، تکلیف، اذیت، دکھ درد، تنگ دستی، رنج، غم، الم، سوگ، بدنصیبی، بدقسمتی، تباہی، نحوست، ادبار، بپتا، افتاد۔

ویم: الوَیْمَۃ: تہمت، چغل خوری۔

وین: الوَیْن: سیاہ انگور (عبرانی لفظ)، عیب۔ الوَیْنَۃ: سیاہ کشمش۔

ویہ: وَیْہَ و وَیْہٍ و وَیْہًا: ترغیب یا انگیخت کا کلمہ جو مفرد، جمع، مذکر و مونث کے لئے یکساں آتا ہے۔

ہ ہاء حروف تہجی کا ۲۶واں حرف۔ اور حروف ابجد میں ۵ سے عبارت ہے۔ غائب کے صیغہ کا ضمیر ہو تو نصب اور جر کی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے: قال له صاحبُه و هو يحاورُهُ (اس کو اس کے دوست نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا)۔ (۲) زیر یا ہائے ساکنہ کے بعد مکسور ہوتا ہے اگر اس کے بعد الف نہ ہو۔ باقی حالات میں مضموم آتا ہے۔ (۳) حرف غیبت (ھاء) جیسے فی ایاہ (اس کو) میں۔ (۴) ھاء سکتہ میں ساکن آتا ہے۔ جیسے ماھِيَهْ (وہ کیا ہے)۔ ھَاھُنا (یہاں)۔ وا زيداه: (اے زید)۔

ھا۔ ھا۔ خذ (لو) کے معنی میں اسم فعل ہوتا جیسے ھا الکتابَ (کتاب لو)۔ اس کے الف کو کھینچ کر پڑھنا یا لکھنا جائز ہے۔ یہ دونوں خطاب کے کاف اور اس کے بغیر استعمال ہوتے ہیں۔ صرف ممدودہ میں کاف کے بغیر اس کی ہمزہ کو کاف کی گردان کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں مذکر کے لئے ھاءَ اور مونث کے لئے ھاءِ اور ھاؤُما، ھاؤُم اور ھاؤُنّ کہا جائے گا۔ مؤنث کا ضمیر ہونے کی صورت میں منصوب اور مجرور ہوتا ہے جیسے: ضربَها و کتابِها۔ چنانچہ ھاء ضمیر اور الف تانیث کی علامت ہے۔ تنبیہ کیلئے بھی آتا ہے۔ جیسے اشارہ سے پہلے: ھَذا وھذاك ضمير مرفوع): ھا أنتم اولاء (خبردار تم) ای کی صفت ندا کی صورت میں یاایھا الرجُل: (اے آدمی)۔ ھااللّٰهِ (خدا کی قسم)۔ قسم کی صورت میں لفظ اللہ سے پہلے حرف قسم کو حذف کرکے)

ھیء: ھِیءْ ھِیءْ: چارے کیلئے اونٹوں کو بلانے کی آواز۔

ھا: ھَأْھَأَ ھِنْھَاءً و ھَأْھَاءً: ٹھٹھا مار کر ہنسا، قہقہہ لگانا۔ صفت ھَأْھا وھَأْھاءٌ ۔ بالإبل: اونٹوں کو چارہ کیلئے لاتے ہوئے ھِیءْ ھِیءْ کہنا یا ڈانٹتے ہوئے ھَأْھَا کہنا۔ اسم الھِیءُ۔

ھَأْھَأْ: اونٹوں کو ڈانٹنے کی آواز۔ جاریةٌ ھَأْھَاءَةٌ: اکثر یا ہمیشہ ہنسنے والی لڑکی۔ ھَـؤُلاءِ: یہ، یہ کئی۔ (ھا تنبیہ کیلئے اور اولاء جمع کیلئے اسم اشارہ)۔

ھا: ہا۔ دیکھو۔ وہاں۔ ھَاھُوَ: دیکھو۔ وہ وہاں ہے۔ ھا انتمُ: تم وہاں۔ ھَذا م ھَذِهِ، ھذی جمع ھولاء تثنیہ ھَذانِ م ھَاتَانِ: یہ ایک، یہ۔ ھَذاكَ م ھَاتِيْكَ جمع ھَؤُلَائِكَ: وہ، وہ ایک۔ ھَكَذَا: اس طرح، یوں۔ و ھَكَذَا: وغیرہ۔ علی ھذا القیاس۔ ھَاھُنا: یہاں۔ ھاء نذا و ھَا نذا و ھاانتَ ذا و ھاتَذَا و ھَاھُوَ ذا، ھَانَحْنُ اُولاَءِ: میں ہی۔ تم وہاں، یہ ایک، وہ ایک، وہ، ہم یہاں وغیرہ میں یہاں ہوں، تم وہاں ہو وغیرہ۔ ھَاكَ جمع ھَاكُمْ: یہاں، اس کو لو، تم وہاں ہو، وہاں تم نے۔ ہے، ہیں۔ ھَاكَهُ: وہ وہاں ہے۔ ھَاء جمع ھاء ات: ہ کا حرف۔ ھابیل: ہابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ ھاتِ جمع ھَاتُوا: مجھے (ہمیں) دو، میرے (ہمارے) پاس لاؤ، مجھے (ہمیں) لینے دو۔ ھاتور: نومبر (مہینہ کا نام)۔

ھب: ھَبْ: وَھَبَ سے فعل امر، فرض کرو، خیال کرو۔ کہا جاتا ہے: ھَبْنِی فَعَلْتُ: فرض کرو میں نے کیا۔

ھبّ: ا۔ ھَبَّ ۔ ھُبُوبًا و ھَبِيبًا و ھَبَّات الريحُ: ہوا کا چلنا۔ الرجُلُ من النوم: نیند سے جاگنا، بیدار ہونا۔ ــ النجمُ: ستارہ کا طلوع ہونا۔ ــ ھَبًّا و ھُبُوبًا ھَبِيبًا و ھِبَابًا: چست و تیز قدم ہونا۔ ــ یفعل کذا: وہ ایسا کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے: من این ھَبَبْتَ: تم کہاں سے آئے؟ ــ ھَبًّا و ھَبَّةً السیفُ الشیءَ: تلوار کا چیز کو کاٹنا۔ ــ ھَبًّا و ھُبُوبًا السیفُ: تلوار کا ہلنا۔ ــ فی الحرب: جنگ میں شکست کھانا۔ ــ ھِبابًا الرجُلُ: ایک زمانہ تک غائب رہنا۔ کہا جاتا ہے: ھَبَّ فلانٌ حینًا ثم قدم: فلاں شخص کچھ عرصہ غائب رہ کر آیا۔ این ھَبَبْتَ عَنّا: تم کہاں غائب رہے۔ ھَبَّبَ تَهْبِيبًا الثوبَ: کپڑا پھاڑنا۔ اَھَبَّ السیفَ: تلوار ہلانا۔ ــ الریحَ: ہوا چلانا۔ ــ هُ من نومه: کو نیند سے جگانا، بیدار کرنا۔ اِھْتَبَّ الشیءَ: کو کاٹنا۔ اِسْتَهَبَّ الریحَ: ہوا کو چلانا، ہوا چلنے کی خواہش کرنا۔ الھَبَّةُ: ھَبَّ کا اسم مرۃ (کہا جاتا ہے: رأیتُهُ ھَبَّةً: میں نے اسے ایک بار دیکھا) سحر کا آخری گھنٹہ۔ زمانہ کی ایک مدت۔ (کہا جاتا ہے: احذرْ ھَبَّةَ السیفِ: تلوار کی ضرب سے ڈر)۔ الھِبَّةُ: تلوار کی کاٹ اور اس کا ہلنا۔ ــ ج ھِبَب: اسم نوع، حال۔ الھَبَاب: ہوا میں اڑنے والے ذرات۔ الھَبّاب: بہت گرد و غبار اڑانے والی ہوا۔ الھَبُوب و الھَبُوبَة و الھَبِیب من الریاح: گرد و غبار اڑانے والی ہوا۔ المَھَبُّ جمع مَھَاب: ہوا چلنے کی جگہ یا سمت۔

۲۔ تَهَبَّبَ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ الھِبَّة جمع ھِبَب: کپڑے کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے: ثوبٌ ھَبَائِب و ھِبَب و اَھْباب: کٹا پھٹا کپڑا۔

۳۔ ھَبْهَبَ الرجُلُ: جلدی چلنا، نیند سے بیدار ہونا۔ ــ السرابُ: سراب کا چمکنا۔ ــ هُ: کو ڈانٹنا۔ ــ الکبشَ: مینڈھا ذبح کرنا۔ تَهَبْهَبَ الشیءُ: حرکت کرنا، ہلنا۔ الھَبْهَب: تیز رفتار۔ (ح) ہلکا

پھاکا بھیڑیا۔ الهَبْهَاب: تیز رفتار، چلانے والا، سراب۔ الهَبْهَبِيّ م هَبْهَبِيَّة: اچھی حدی گانے والا، خوش آواز، حدی خواں، باورچی، بکریوں کا چرواہا، گوشت بھوننے والا، قصاب، خوب محنت و مشقت کرنے والا، تیز رفتار، ہلکا پھلکا اونٹ۔

ⓒ هانم جمع هَوانِم: خاتون (lady)، عورت۔ هَوانِمي: خاتون نما، عورت نما، زنانہ، نسوانی، نسائی۔

هاوای: ہوائی، (جزیرہ کا نام)۔ هَاوُن و هَاوُون جمع هَوَاوِين و أَهوان: کونڈی، کھرل۔ مِدْفَعُ الهاوَن: اونچا گولہ پھینکنے والی چھوٹی توپ، چھوٹی بالا انداز توپ (mortar)۔

هَايتي: ہایتی (Haiti)۔

ⓒ هَبَّ يَهُبُّ هَبًّا: حرکت میں آنا، چلنے لگنا، حرکت کرنے لگنا۔ ــــ إلى: تک پہنچنا، پر حملہ کرنا، کو کرنا، پر غور کرنا، سمجھانا، کا آغاز کرنا، سے شروع کرنا، کچھ کرنے لگنا۔ هَبَّ يفعل: کرنے لگنا۔ ــ إلى: پر بلہ بولنا، جھپٹنا۔ هَبَّ: جاگنا، بیدار ہونا۔ ــــ من: نیند سے جاگنا، بیدار ہونا۔ ــــ على: کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، کے خلاف بغاوت کرنا۔ هَبَّ ـ هَبًّا و هُبُوبًا و هَبِيبًا: (ہوا) کا چلنا، (طوفان) کا آگ بگولا ہونا، طیش میں آنا، تندی دکھانا، (آگ) کا یکا یک لگ جانا، یا شروع ہونا یا پھیلنا۔ ــ على (خوشبو کا) کی طرف اڑ کر جانا، اڑ کر کی سمت ڈھیر لگنا، سے ملنا۔ هَبَّ للحرب: جنگ میں داخل ہونا، ہتھیار اٹھانا۔ هَبَّ لِمقاوَمَة: مخالفت میں ہتھیار اٹھانا، ہتھیار لے کر اٹھنا۔ هَبَّ واقِفا: کھڑا ہونا۔ هَبَّتْ رِيحُهُ: فارغ البال ہونا، مزے میں ہونا، فارغ البالی یا آرام یا آسائش سے ہونا، خوش نصیب ہونا۔ هَبَّ فيه الكلبُ: کتے نے اس پر حملہ کیا، پر جھپٹا۔ كُلُّ مَنْ هَبَّ و دَبَّ: ہر شخص اور اس کا بھائی۔ ہر ما چھا سا چھا۔ هَبَّبَ ہ: کو پھاڑنا، چیرنا، کے ٹکڑے کر دینا، کو دھویں سے کالا کرنا، کو اناڑی پن سے کرنا، (کام) بگاڑ دینا۔ اَهَبَّ ہ من: کو (نیند) سے بیدار کرنا۔ تَهَبَّبَ: چر جانا، پھٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ هَبَّة: جھکڑ، ہوا یا بارش کا زور کا جھکڑ۔ هَبَاب: عمدہ راکھ۔ هِبَاب: دھواں۔ هَبُوب: تند ہوا، طوفانی ہوا، تند ہوا کا جھونکا، جھکڑ، نسیم سحری فرحت بخش ہوا۔ هُبُوب: ہوا کا چلنا۔ مَهَبّ جمع مَهَابّ: جگہ جہاں یا جہاں سے ہوا چل رہی ہو، ہوا کا رخ، موسم یا ہوا کی سمت یا پہلو، ہوا کا چلنا۔ في مَهَبِّ الريح: طوفان کا اڑایا ہوا، طوفان کے خطرے میں، جس کو طوفان کا خطرہ درپیش ہو۔

هبت: ۱۔ هَبَتَ ـ هَبْتًا ہُ: کو مارنا، کا سر جھکانا، کا مرتبہ گھٹانا۔ ــ ہُ بالسيف: کو تلوار مارنا یا تلوار سے ضرب لگانا۔ هُبِتَ الرجُلُ: بزدل اور بے وقوف ہونا۔ صفت: هَبِيت و مَهْبُوت۔ الهَبْتَة: هبت کا اسم مرہ۔ کمزوری، کہا جاتا ہے: في عقله هبتة: اس کی عقل میں کمزوری ہے، اس کی عقل کمزور ہے۔

۲۔ الهُبْتَر: پستہ قد۔

ⓒ هَبَتَ ـ هَبْتًا ہ: کو پچھاڑ دینا، کو کسی ضرب سے بے ہوش یا وقتی طور پر ناکارہ کر دینا، کو گرا دینا، کو زمین پر پٹخنا۔ هُبِت: دل شکستہ ہونا، یاس زدہ ہونا، بزدل ہونا، بے ہمت ہونا، دھیمے فہم والا ہونا۔ هَبِيت: دل شکستہ، یاس زدہ، بزدل، بے ہمت دھیمے فہم والا۔

هبج: هَبَجَ ـ هَبْجًا ہُ بالعصا: کو لاٹھی سے لگاتار مارنا۔ هَبِجَ ـ هَبَجًا وجهُ الرجُلِ: کے چہرے کا پھولنا، سوجنا صفت: هَبِجٌ۔ هَبَّجَ ہُ: کو متورم کرنا۔ تَهَبَّجَ: متورم ہونا۔ المهَبَّج: ست کند ذہن۔ الهِبْهَاج: برادستہ، موگری (عام زبان میں)۔

هبد: هَبَدَ ـ هَبْدًا الهَبِيدَ: اندرائن کے بیج چن کر پکانا۔ ــ فلانًا: کو اندرائن کے بیج کھلانا۔ تَهَبَّدَ و اهْتَبَدَ الهَبِيد: اندرائن کے بیج چن کر پکانا۔ الهَبْد (ن): اندرائن یا اس کے بیج۔ الهَبِيد واحد هَبِيدة: اندرائن یا اس کے بیج۔ الهَوابِد: اندرائن کے بیج چننے والیاں۔

هبذ: هَبَذَ ـ هَبْذًا و هابَذَ و أَهْبَذَ و اهْتَبَذَ الفرسُ او الطائرُ: گھوڑے کا تیز چلنا، پرندے کا تیز اڑنا۔ الهابِذَة جمع هَوابِذ: تیز رفتار اونٹنی۔

هبر: هَبَرَ ـ هَبْرًا اللحمَ: گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹنا۔ کہا جاتا ہے: هبر لهُ من اللحم هَبْرةً: اس نے اس کے لئے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ هَبَرْنَاهُم بالسيوف: ہم نے انہیں تلواروں سے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا۔ هَبِرَ ـ هَبَرًا البعيرُ: اونٹ کا پُر گوشت ہونا۔ أَهْبَرَ الرجلُ: خوشنما موٹا ہونا۔ اُهْتُبِرَ فلانًا بالسيف: کو تلوار سے کاٹنا۔ ــــ البعيرُ: اونٹ کا دبلا پتلا ہونا۔ الهَبْر (مص) واحد هَبْرَة: گوشت یا بغیر ہڈی کے گوشت کا ٹکڑا۔ ــــ في القراءَة: آیت پر وقف کرنا (جو ناپسندیدہ ہے)۔ کہا جاتا ہے: ضربٌ هَبْرٌ و هَبِيرٌ: گوشت کے ٹکڑے کرنے والی ضرب۔ الهُبْر: انگور کا بیج، جو کتان سے گرے۔ الهِبَر م هَبِرَة من الجمال: بہت گوشت والا اونٹ۔ کہا جاتا ہے: بعيرٌ هَبِرٌ وَبِرٌ: بہت گوشت اور بالوں والا اونٹ۔ الهَبِير: کٹا ہوا۔ الهُبَارِيَة: باریک اڑنے والے پر، بالوں کی جڑوں کی بھوسی۔ رِيحٌ هُبَارِية: گرد آلود ہوا۔ الهِبْرِيَة: روئی کا اڑنے والا رُواں، پروں یا بانس اور نرکل کے ٹکڑے، اڑنے والے باریک پر، سر کی بھوسی۔ جسے قشرة الرأس بھی کہا جاتا ہے: الهُبَيْرَة (ح): بجّو۔ ابو هُبَيْرَة: مینڈک۔ اُمّ هُبيرة: مینڈکی۔ الأَهْبَر م هَبْرَاء جمع هُبْر: پُر گوشت، بہت گوشت والا۔ الهَبَّار: بہت بالوں والا بندر۔ سيفٌ هَبَّار: کاٹنے والی تلوار۔ الهَبُور (ح): مکڑی۔ الهَبُّور: چھوٹی چیونٹی، کھیتی کے گرے ہوئے خوشے، پتے۔

۲۔ الهَبْر جمع هُبُور و هُبْر: پست ریت یا زمین کا قطعہ۔ الهَبِير جمع هُبُر و اَهْبِرَة: پست زمین جس کے چاروں طرف بلندی ہو۔

۳۔ هَبْرَجَ الرجُلُ: ڈگمگا کر چلنا۔ الهَبْرَج: ڈگمگا کر چلنے والا، لمبی دم کا، اترا کر یا اکڑ کر چلنے والا، بہت موٹا۔ (ح) بیل (ح) بوڑھا ہرن۔ الهِبْرِج: بہت موٹا۔ المُهَبْرَج من الاوتار: خراب تانت۔

۴۔ هَبْرَجَ الثوبَ: کپڑے کو نقش و نگار سے آراستہ کرنا۔ الهَبْرَج: منقش کپڑا۔

۵۔ الهَبْرَج: تیز چال۔

۶۔ الهِبْرِزي: گھوڑے کے کنگن، نیا دینار، ہر عمدہ خوشنما چیز۔ (ح): شیر، عمدہ موزہ، خالص سونا۔

۷۔ تَهَبْرَسَ: اترا کر چلنا، اکڑ کر چلنا، کلول کرنا، کلیلیں کرنا (گھوڑے کا)۔

ⓒ هَبَرَ ـ هَبْرًا ہ: کو دانتوں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کی دانتوں سے صورت بگاڑنا۔ ــــ ہ: گوشت کو بڑے بڑے پارچوں میں کاٹنا۔ هَبْر: ہڈی دار گوشت۔ هَبْرَة: گوشت کا ٹکڑا یا قتلا۔ هُبَيْرَة: چرخ، لکڑ بگا۔ ابو هُبَيْرَة: مینڈک۔

هبز: هَبَزَ ـ هَبْزًا و هُبُوزًا و هَبَزَانًا: مرنا یا اچانک مرنا۔

هبش: هَبَشَ ـ و هَبِشَ ـ هَبْشًا الرجلُ: پوری مٹھی سے دوہنا۔ ــ الشيءَ: کو جمع کرنا، کو پہنچنا۔ ــ فلانًا: کو دردناک ضرب لگانا۔ ــــ لِعيالِهِ: بال بچوں کے لئے کمانا۔ هَبَّش تهبيشًا المالَ: مال جمع کرنا۔ ــــ ہُ: کو نوچنا، کھرچنا، چھیلنا، ناخن مارنا، پنجہ مارنا۔ تَهَبَّش القومُ: قوم کا جمع ہونا۔ ــ الشيءَ: چیز کو جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے: خَرَجَ يَتَهَبَّشُ لِعياله: وہ نکل کر اپنے بال بچوں کے لئے مال جمع کرنے اور کمانے لگا۔ اِهْتَبَشَ المالُ: مال جمع ہونا۔ ــ الشيءَ: چیز کو جمع کرنا۔ ــ منه عطاءً: سے بخشش پانا۔ الهابِشَة:

جماعت — والهَبَاشَة جمع هَوَابِش و هُبَاشَات: مختلف قبیلوں کی جماعت۔الهُبَاشَات: کمائیاں، کمائے اور جمع کیے ہوئے مال۔الهَبَّاش: بہت کمائی اور جمع کرنے والا۔

ن هَبَتَ -هَبْتًا: ہاتھ یا پنجوں سے پکڑنا، چھین لینا، جھپٹ لینا یا مضبوطی سے پکڑنا۔

هبص: هَبِصَ -وَهَبَصَ -هَبْصًا و هَبَصًا: پھرتیلا اور چست ہونا — الکلبُ: کتے کا شکار کا حریص ہونا۔علی الشیء: کی حرص میں بیقرار اور بیتاب ہونا۔صفت هَبِص۔ اِهْتَبَصَ فی العمل: کام میں جلدی کرنا — فی المشی: تیز چلنا — و اِنْهَبَصَ للضحك: بہت ہنسنا۔الهِبِصَّی: تیز چال۔ کہاجاتا ہے مشی الهِبِصَّی: وہ تیز چلا۔

هبط: هَبَطَ -هُبُطًا من الجبل: کو پہاڑ سے اتارنا۔ — بلدَ کذا: کسی شہر میں داخل ہونا۔السوقَ: بازار میں پہنچنا۔الوادی: وادی میں اترنا۔صفت هَبَّاط۔ — فلانًا البلدَ: کو شہر میں داخل کرنا۔ المرضُ لحمَهُ: کو بیماری کا کمزور اور دبلا پتلا کرنا۔ — ثمنَ السلعة و من ثمنها: سامان کی قیمت گھٹانا — فلانًا: کو مارنا۔ -هُبُوطًا فلانٌ من الجبل: پہاڑ سے اترنا۔الثمنُ: قیمت کا گھٹنا۔ —فلانٌ: خاکساری کرنا۔من موضع إلی آخر: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔الحائطُ: دیوار کا گرنا (عام زبان میں) کہاجاتا ہے هَبَطَ من الخشیة: خوف زدہ ہونا۔کہاجاتا ہے هَبَطَهُ الزمانُ: زمانہ کا کسی کو امیری سے غریبی میں لے آنا، مفلس و قلاش کر دینا۔هَبَّطَ العِدلَ: بوری کو اونٹ پر درست کر کے رکھنا۔أَهْبَطَهُ: کو اتارنا — الثمنَ: قیمت گھٹانا۔تَهَبَّطَ من کذا: سے نیچے اترنا — الشیءُ: بچھنا۔اِنْهَبَطَ الرحلُ: گرنا۔الهابط (فا): لاغر۔الهَبْط (مص): نقصان، کمی، شر میں پڑنا، ذلت، کہاجاتا ہے اللّٰهمّ غَبْطًا و لا هَبْطًا: اے اللہ ہم کو رشک کی حالت میں رکھ اور ذلیل نہ کر۔الهَبْطَة: اسم مرہ، پست زمین۔کہاجاتا ہے هم فی هبطة من الارض: وہ گھاٹی میں ہیں۔الهَبُوط: ڈھلوان زمین۔الهَبِیط: دبلا، لاغر۔المَهْبِط: اترنے کی جگہ۔قطب منفی: منفی برقیرہ (Cathod) المَهْبُوط: دبلا، پتلا۔رَجُل مَهْبُوط: غریب، مفلس، آدمی۔

ض هَبَطَ -هُبُوطًا: اترنا، نیچے جانا، نیچے آنا، گرنا، رہنے لگنا، بیٹھ جانا، ڈھلوان ہونا، زمین پر گر جانا، (چھت کا) گر جانا — ہ: ہوائی جہاز، مسافروں کا، کسی ملک میں اترنا — (جسم کا) دبلا پتلا، لاغر یا کمزور ہونا۔ (ہوا، آگ وغیرہ کا) گھٹنا، فرو ہونا، عام سطح پر آجانا، رک جانا، ختم ہو جانا، (قیمتوں کا) گھٹ جانا، کم ہو جانا — ہ: کسی جگہ جانا، یا آنا۔ -هَبْطًا و اَهْبَطَ ہ/ہ: کو اتارنا، نیچے کرنا، نیچے لانا، نیچے بھیجنا، نیچے گرانا، نیچے پھینکنا، پٹکنا، پٹخنا — ہ: قیمت گھٹانا، کم کرنا، کھلی جگہ آنا۔هَبْط: کمی، گھٹاؤ۔هَبْطَة: اترنا، گرنا، نشیب، گڑھا۔هُبُوط: ڈوبنا، گرنا، جھکاؤ، اترنا، کمی، تخفیف، قیمت کا گھٹنا، کمزوری، لاغری، سرد بازاری، ہوائی جہاز کا زمین پر اترنا۔هُبُوطٌ اضطراری: ہوائی جہاز کا ہنگامی طور پر اترنا۔هُبُوطُ الرحِم: اسقاط الرحم۔ بچہ دانی کا نیچے گرنا یا سرک جانا۔هَبُوط: ڈھلان، جھکاؤ، تنزل، ڈھلوانیا کھڑی چٹان۔هَبِیط: دبلا پتلا، نحیف، لاغر، ضعیف، ناتواں، کمزور، تھکا ہوا۔ اُهْبُوطَة جمع هَابِیط: پیراشوٹ (parachute)، (ہوا سے زمین پر بحفاظت اترنے کی چھتری، محافظ چھتری۔مَهْبِط جمع مَهَابِط: گرنے یا اترنے کی جگہ، ہوائی اڈے میں طیارے کی سڑک (runway)، گرنا، جائے پیدائش، گہوارہ (مجازاً)، قطب منفی، منفی برقیرہ (cathode)۔مهبط الوحی: اسلام کا گہوارہ۔فی مهبط الغروب: سورج غروب ہونے کے وقت۔ هَابِط: اترنے والا، گرنے والا، ڈوبنے والا۔الهابط بالمظلّة الواقیة: محافظ چھتری کے ذریعے اترنے والا pratrooper۔مَهْبُوط: دبلا پتلا، لاغر، ناتواں، نحیف، تھکا ماندہ۔

هبع: هَبَعَ -هَبْعًا و هُبُوعًا الحمارُ: گدھے کا ست چال چلنا، ہر ایسی حالت والا بھی هَبَعَ کے معنی میں آتا ہے۔صفت هَبِع۔ — البعیرُ: اونٹ کا گردن پھیلا کر چلنا۔بعنقه: تیز چلنا اور اپنی گردن سے مدد لینا صفت هَابِع و هُبُوع۔ اِسْتَهْبَعَ البعیرَ: اونٹ کو گردن پھیلا کر چلوانا۔الهُبَع جمع هُبَعَات و هِبَاع م هُبَعَة جمع هُبَعَات (ح): گدھا، گرمی میں پیدا ہونے والا اونٹ کا بچہ۔ابل هُبَّع: گردن لمبی کر کے تیز چلنے والے اونٹ۔المُهْبِع: گرمی میں پیدا ہونے والے اونٹ کے بچوں کا مالک۔

هبغ: هَبَغَ -هُبُوغًا و هَبْغًا الرجلُ: سونا۔الهَبْغَة: نیند۔الهَبِیغ: بہت سونے والا۔

هبك: اِنْهَبَكَ بـه الارضُ: زمین کا کسی کو نگل لینا، دھنسا دینا۔الهُبْكَة جمع هُبُكَات و هُبَك: بیوقوف، وہ زمین جس میں قدم دھنسیں۔

هبل: اَهْبَلَ -هَبَلًا فلانًا اُمُّهُ: ماں کا اپنے فرزند کو گم کر دینا صفت هَابِل: بددعا میں کہتے ہیں هَبِلَتْهُ اُمُّهُ: اس کی ماں اسے گم کرے، اکثر و بیشتر مدح، تحسین و پسندیدگی میں ما اعلمهُ وما اصوب رأیَهُ: (وہ کتنا عالم ہے، اس کی رائے کتنی درست ہے) کے معنی میں مستعمل ہے هَبَّلَ فلانًا: کسی سے هَبِلَتْكَ اُمُّكَ کہنا۔اَهْبَلَ الرجلُ: مرد کا لڑکے سے اس کی موت کی وجہ سے محروم ہو جانا۔اِهْتَبَلَ علی ولده: بے اولاد ہونا۔الهَبُول: عورت جو اپنے بیٹے سے اس کی موت کی وجہ سے محروم ہو جائے۔المُهَبَّل جمع هَبِلَتْكَ اُمُّكَ (تیری ماں تجھ سے تیری موت کی وجہ سے محروم ہو) کہا جائے۔المَهْبُول (مفع): جس سے اس کی ماں اس کی موت کی وجہ سے محروم ہو جائے۔

۲هَبَلَ الرجلُ لِعیاله: آدمی کا اپنے اہل و عیال کے لئے کمانا۔اِهْتَبَلَ لِعیاله: اپنے اہل و عیال کے لئے کمانا۔فلانٌ: بہت جھوٹ بولنا اور حیلہ بازی کرنا۔ الصیدَ: شکار کو دھوکا دینا — الشیءَ: کو غنیمت سمجھنا۔کہاجاتا ہے اِهْتَبَلَ کلمةَ حکمةٍ: اس نے دانائی کی بات کو غنیمت جانا۔کہاجاتا ہے اِهْتَبِلْ هَبْلَكَ: اپنی راہ چل۔الهابِل: کمانے والا، حیلہ گر۔الهَبْل (مص): حالت۔الهَبِل: حیلہ گر (ح): بھیڑیا۔ الهِبِلّ و الهِبَلّ: حیلہ گر۔الهَبَال: واحد هَبَالَة (ن): ایک درخت جس کی لکڑی سے تیر بناتے ہیں۔ الهَبَالَة: طلب، التماس، درخواست۔کہاجاتا ہے: نالَه بهَبَالَةٍ: اس نے وہ چیز التماس سے حاصل کی۔ الهُبَالَة: غنیمت۔الهَبَّال: حیلہ گر، کمانے والا، شکاری جو شکار کو دھوکا دیتا ہو۔المُهْتَبِل: جھوٹا۔

۳هَبَّلَ وَ اَهْبَلَ اللحمُ فلانًا: کسی پر گوشت تہ بہ تہ چڑھنا۔الهابِل: بہت گوشت اور چربی والا۔الهِبِلّ و الهِبَلّ: بڑا لمبا آدمی۔المُهَبَّل: پر گوشت سوجے ہوئے چہرے والا۔

۴هَبَّلَ الشیءَ عند العامّة: کو شعلوں کے سامنے کرنا۔ الهَبْلَة عند العامة: شعلے بخارات۔لحمٌ مُهَبَّل: آگ پر رکھا ہوا گوشت۔

۵اُهْبِلَ الرجلُ: عقل و تمیز کھو دینا۔الهَبَل عند العامّة: بے وقوفی، عقل کی کمزوری۔الهَبَالَة: عقل و تمیز کا فقدان۔الهَبِیل: بے وقوفی (عام زبان میں) الأَهْبَل ج هُبْل: عقل و تمیز سے عاری۔المُهَبَّل: پاگل۔ المَهْبُول عند العامة: بے وقوف۔

۶هُبَل: کعبہ میں زمانہ قبل از اسلام رکھے ہوئے ایک بت

کا نام۔ الهَبْلَة: بوسہ۔ الهَبَل (ن) ایک درخت۔
الهبلى ناز کی چال۔ کہا جاتا ہے: هو يمشى
الهبلى وہ ناز سے چلتا ہے۔ الهبل ہلکا پھلکا۔
○ هبل۔ هبلا: ماں کا بیٹا مرجانا۔ هبّل بھاپ کا غسل
لینا۔ اهتبل ہ (موقع) سے فائدہ اٹھانا۔ اهتبل
سازباز کرنا، سازش کرنا۔ اهتبل هبلك خواہ مخواہ
دخل درمعقولات نہ کرو، اپنے مفادات کو نظر میں رکھو،
اپنے معاملات کی نگہداشت کرو۔ هبل: لمبا ہٹا کٹا
آدمی۔ هَبل احمق، گدھا۔ أهبل م هبلاء جمع
هُبْل۔ دھیمے فہم کا، کمزور ذہن (کا)، کم عقل (کا)،
خبطیوں کا سا۔ مَهْبل و مَبِل جمع مهابل: اندام
نہانی، فرج، رحم کا راستہ۔ مُهبلي فرج کے متعلق۔
مُهبّل بیوقوف، احمق، خبطیوں کا سا، ضعیف العقل،
کوڑھ مغز، غبی، کودن، سادہ لوح، گاؤدی۔

هبن۔ ا۔ الهبنّق بیوقوف، پستہ قد۔
۲۔ الهبنّك بیوقوف، کمزور، چغل خور۔ الهبنّكة
الهبنّك کا مؤنث، سست۔

هبو: هبا يهبو هبوًا الغبارُ گرد وغبار کا بلند ہونا۔
الرمادُ راکھ کا مٹی سے ملنا۔ الفرسُ گھوڑے کا
بھاگ جانا۔ فلانٌ: مرنا۔ أهبى إهباءً الفرسُ
گھوڑے کا گرد وغبار اڑانا۔ تهبّى تهبّيًا: دونوں
ہاتھ جھاڑنا۔ الهابى: قبر کی مٹی۔ جمع هُبّى (فا)
کہا جاتا ہے نجوم هُبّى: غبار میں چھپنے والے
ستارے۔ هذا موضع هابى التراب: اس جگہ کی
مٹی گرد وغبار کی طرح تیلی ہے۔ تراب او رمادٌ
هابٍ: فضا میں پھیلی ہوئی مٹی یا راکھ۔ الهباء جمع
أهباء: گرد وغبار، باریک مٹی کے ذرات جو زمین پر
بکھرے ہوں، کم عقل لوگ۔ الهباءة: گرد وغبار کا
قطعہ۔ هُبَاية الشجر: درخت کی چھال۔ الهَبْوة
جمع هبوات و أهباء: گرد وغبار۔ أهباء الزوبعة:
بگولہ۔
۲۔ هبا يهبو هبوًّا الرجلُ: آہستہ چلنا۔ الهبيّ م هبيّة:
چھوٹا لڑکا۔ المتهبّي: کمزور نظر والا۔
○ هبا هبوًّا (گرد وغبار۔ دھویں کا) ہوا میں بلند ہونا،
بھاگ جانا، فرار ہو جانا، رفو چکر ہو جانا، چھلانگ لگانا۔
هَبْوة: گرد وغبار کا بھنور، گرداب۔ هباء جمع أهباء:
باریک غبار، ہوا میں تیرنے والے گرد وغبار کے
ذرات۔ هباءً منثورًا سب طرف بکھرے ہوئے
ذرات۔ ذهب هباءً: غائب ہو جانا، تحلیل ہو کر معدوم
ہو جانا، ٹائیں ٹائیں فش ہونا۔ ذهب هباءً منثورا یا
ضاع هباءً منثورا: دھواں ہو جانا، ناکام رہنا۔
ذهب به هباءً کسی چیز کو تباہ کرنا، کوئی کام بنا دینا، کو
ہر طرف بکھیر دینا۔ هباءة: گرد وغبار کا ذرہ۔

هت: ا۔ هتّ هتًّا الكلام: خوش بیانی سے گفتگو کرنا۔
۔ الماءَ: پانی گرانا۔ ۔ ت المرأة غزلَها: عورت کا
مسلسل کاتنا۔ فلانٌ في كلامه: تیزی سے بولنا۔
۔ هتيتًا البكرُ: جوان اونٹ کا آواز نکالنا۔ الهتّات
ہلکا پھلکا، بہت باتیں کرنے والا۔ المِهتّ: بمعنی
الهتّات۔
۲۔ هتّ ۔ هتًّا الثوبَ او العرضَ: کپڑا اپھاڑنا، ہتک
عزت کرنا۔ هتّه بكذا: اُس نے اس معاملہ میں
اسے قصوروار ٹھہرایا (اس نے اس کو اس بات پر الزام
دیا)۔ فلانًا: کا مرتبہ گھٹانا۔ ورقَ الشجرِ
درختوں کے پتے گرانا۔ الشيءَ: کو توڑنا، ریزہ
ریزہ کرنا۔ الهتّ: مص۔ کہا جاتا ہے ترکهم
هتًّا بتًّا: اس نے انہیں ٹوٹا پھوٹا یا کٹا پھٹا چھوڑا۔ اس
نے ان کو توڑ ڈالا۔ کاٹ ڈالا۔
۳۔ هَتهَتَ الشيءَ: کو توڑنا۔ البعيرُ: پانی پیتے وقت
اونٹ کو ہت ہت کہہ کر ڈانٹنا۔ في الكلام: جلدی
جلدی بولنا۔ الهتهات: ہلکا پھلکا، تیز بولنے والا۔

هتأ: هتأ يهتأ هتأً ہ بالعصا و نحوها: کو لاٹھی
وغیرہ مارنا۔ الطعامَ: کھانا کھانا۔ الرجلُ: ٹیڑھا
ہونا، کبڑا ہونا۔ تهتّأ تهتّؤًا الثوبُ: کپڑے کا
ٹکڑے ٹکڑے ہونا، بوسیدہ ہونا۔ الهتْءُ و الهِتْءُ
و الهَتِيءُ و الهِتاءُ و الهِتِيءُ و الهِتاءُ و الهَتاةُ:
وقت۔ کہا جاتا ہے مضى من الليل هتْءٌ:
رات کی ایک گھڑی گزر گئی۔ الهَتأُ و الهُتُوءُ:
شگاف، چھٹن۔ الأهتأ: کبڑا۔

هتر: اهتر ۔ هترًا عِرضَ فلان: کی ہتک عزت
کرنا۔ الكِبرُ فلانًا: بڑھاپے کا کسی کی عقل کو
خراب کر دینا۔ هتّر عِرضَ فلان: کی بہت ہتک
عزت کرنا۔ هاتر مهاترةً ہ: کو گالیاں دینا، کی توہین
کرنا۔ أُهتِرَ الرجلُ: کی بڑھاپے، بیماری یا غم سے
عقل جاتی رہنا۔ صفت مُهتَر۔ أهتر فلانٌ: کسی
چیز کے بارے میں کچھ کہنے کا عادی ہونا۔ اُهتِروا في
ذكر الله: اللہ کے ذکر میں شیدائی ہونا۔ تهاتر
الرجلان: ایک دوسرے پر جھوٹا دعویٰ کرنا۔ کہا جاتا
ہے تهاترت الشهادات: گواہیوں نے ایک دوسرے
کی تردید کی۔ استهتر فلانٌ: اندھا دھند خواہش پر
چلنا، بڑھاپے کی وجہ سے نہ سمجھنا۔ استُهتِر الرجلُ:
بہت لغو بیکار کام کرنا۔ الرجلُ بكذا: کا فریفتہ
ہونا، صرف اسی کی بات کرنا۔ بالشيءِ: کی پروانہ
کرنا۔ (عام زبان میں) الهاتر جمع هاترون و
هترة: فا۔ الهِتر جمع أهتار: جھوٹ، مصیبت،
عجیب بات، ناکارہ گفتگو، غلط بات۔ کہا جاتا ہے:
فلانٌ هِترُ أهتار: فلاں شخص لائق ملامت کاموں اور
عیاری سے متصف ہے۔ الهُتر: بڑھاپے، بیماری یا
غم سے عقل کا جاتا رہنا۔ التهاتر: ایک دوسرے کی
تکذیب کرنے والی شہادتیں۔ التهتار و التهتّر:
حماقت، جہالت۔ المُهتَر: کسی بات کے کہنے پر
فریفتہ، بڑھاپے، بیماری یا غم کی وجہ سے خراب عقل
والا۔ رجلٌ مُهتَر: گفتگو میں غلطی کرنے والا۔
المستهتَر: بہت باطل اور لغو کاموں کا مرتکب۔
بالشيءِ: کسی شئے کا بہت ہی دلدادہ۔
۲۔ الهِتر جمع أهتار: رات کا پہلا نصف۔
۳۔ الهَتَرك (ح): شیر، سخت کٹھن زمانہ۔
○ هتر۔ هترًا ہ: کو ریزہ ریزہ کرنا۔ هاتره: کو گالیاں
دینا، کی توہین کرنا۔ أُهتِر و أُهتِر: بوڑھے کا کمزور
عقل والا ہو جانا، بچوں جیسا ہو جانا۔ تهاتر: ایک
دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو الزام دینا، متہم
کرنا (شہادتوں کا) متضاد ہونا۔ استهتر: لاپرواہ ہونا،
غافل ہونا، غیر ذمہ دارانہ طور پر یا غیر محتاط طریقے سے
کام کرنا۔ ب: کو حقیر سمجھنا، کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، کو کوئی
اہمیت نہ دینا، کی سب کی کرنا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا، کو
حقیر جاننا، پر طنز کرنا، چوٹ کرنا، کی ہنسی اڑانا، کو چڑانا،
کا مضحکہ اڑانا، ہنسی اڑانا، کو چھیڑنا، کا مذاق اڑانا، پر ٹھٹھا
کرنا، سے تمسخر کرنا۔ استُهتِر ب: پر فریفتہ ہونا، کا
والہ وشیدا ہونا، کی محبت میں اندھا ہونا، کے معاملہ میں
بے عقل و بے شعور ہونا، کا شیدا ہونا۔ هِتر جمع أهتار:
احمقانہ باتیں، بکواس، بچگانہ گفتگو، جھوٹ، دروغ،
کذب۔ هُتر: کمزور دماغی، سٹھیا پا۔ مهاترة: گالی،
بدزبانی، دشنام، سرزنش، لعنت، ملامت، توہین۔ جمع
مهاترات: حجت، تکرار، جھڑپ، نوک جھونک، جھگڑا،
ٹنٹا۔ تهاتر: متماثل شہادت کو سامنے لانا۔ استهتار:
من چلا پن، بے احتیاطی، لاپرواہی، بے پرواہی، بے
فکری، رندی، آوارگی، بدکاری، بے لگامی، اخلاقی قیود
سے آزادی، عیاشی، اوباشی، اہانت، حقارت، تحقیر،
نفرت، بے زاری، استہزاء۔ مُهتَر: بچوں کی طرح یا
سٹھیا ہوئے لوگوں کی طرح باتیں کرنے والا، بہکی بہکی
باتیں کرنے والا، ہذیاں بکنے والا، بے سود کام کرنے
والا، بچوں جیسا بوڑھا۔ مُستهتِر: لاپرواہ، بے پرواہ،
بے فکر، بے احتیاط، عاقبت نااندیش، غیر ذمہ دار، بے
روک، بے لگام، بے ڈھنگا، مخمور، عیاش، اوباش، چنچل،

شوخ، بے قابو، آزادانہ کسی پابندی کے بغیر۔ مُسْتَهْتَر
ب کا اندھا دھند جانثار، پر اندھوں کی طرح فدا، پر
فریفتہ کی محبت میں اندھا، کا والہ وشیدا، پر لٹو، پر جان
دینے والا۔

هتش: هَتَشَ -هَتْشًا الكلبَ: کتے کو بھڑکانا۔ کہا جاتا
ہے: هَتَشَ الكلبَ فاحْتَتَشَ: کتے کو بھڑکایا گیا تو وہ
بھڑک اٹھا۔ (یہ لفظ کتے اور درندوں سے خاص
ہے)۔

هتع: هَتَعَ -هَتْعًا الى قومه: جلدی سے اپنے لوگوں
کے پاس آنا۔

هتف: هَتَفَ -هَتْفًا و هتافات الحمامةُ: کبوتری کا
رونا۔ — فلانٌ بفلان: کو چلا کر بلانا، کی تعریف
کرنا۔ هَتَّفَ تَهْتيفًا الحمامةُ: کبوتری کا نوحہ
کرنا۔ الهاتِفُ (فا): غیب سے آواز دینے والا۔ کہا
جاتا ہے: سمعتُ هاتفًا يهتف: میں نے آواز سنی
مگر کسی کو نہ دیکھا یعنی مجھے بولنے والا نظر نہ آیا۔ اسی لفظ
سے جدید مصنفوں نے ٹیلیفون کیلئے ھاتف کا لفظ اخذ
کیا ہے۔ الهَتْفُ و الهُتاف (مصدر): کرخت و
بلند آواز۔ کہا جاتا ہے: قوسٌ هَتّافةٌ و هَتَفَى: آواز
دینے والی کمان۔ قوسٌ هتوفٌ: آواز دینے والی
کمان۔ حمامة هَتوف: بہت کوکو کرنے والی کبوتری۔
ريحٌ هَتُوف: سائیں سائیں کرنے والی ہوا۔
سحابة هَتوف: گرجنے والا بادل۔ اسم: الهَتْفَى۔

⊙ هَتَفَ -هُتافًا: چلانا، خوش ہونا، خوشی سے چلانا۔
هتف ل/ب: کو خوش آمدید کہنا، کیلئے خیر مقدم کے
نعرے لگانا، کی دلداری کرنا، کا دل بہلانا، کا جی خوش
کرنا، کے لئے شاباش کے نعرے لگانا، کو باآواز تحسین و
آفرین کہنا۔ — ضِدَّ: کے خلاف ناپسندیدگی کے
نعرے بلند کرنا، پر فقرے کسنا، کا مذاق اڑانا، پر پھبتی
کہنا۔ — ب: کی بہت تعریف کرنا، کی ستائش کرنا، کی
تعریف کے پل باندھنا۔ — بہ: کو پکار کر کہنا۔ هتف
به هاتف: ایک آواز نے اسے پکار کر کہا، ایک غیر
مرئی طاقت نے اُسے بتایا، کچھ کرنے کے لئے کہا۔
هتف بحياته: کیلئے شاباش کے نعرے لگانا۔ هتف
ثلاثًا ل: کے لئے تین نعرہ ہائے تحسین لگانا۔ تَهاتَف
على: کچھ کرنے کے لئے ایک دوسرے کی ہمت
بڑھانا۔ هَتْفة: چیخ، زور کی پکار، بلند آواز، پکار، کوک،
نعرہ مسرت۔ هُتاف جمع هُتافات: چیخ، زور کی آواز،
بلند آواز، پکار، نعرہ مسرت، خوشی کی چیخ پکار، آہا،
شاباش، پرجوش تائید، بہانگ بلند تائید، نعرہ تحسین،
تالیاں، واہ واہ، باآواز تحسین و آفرین۔ — ل: کے لئے
نعرۂ تحسین۔ هُتافُ الحروب: نعرۂ جنگ۔ عاصِفةٌ
من الهُتاف: تحسین و آفرین کا طوفان، گرجدار یا
کڑک دار تحسین و آفرین۔ هاتِف: چیخنے والا، چلانے
والا، بلند آواز سے بلانے والا، غیبی بلانے والا، آواز
جمع هَواتِف: ٹیلیفون، لاؤڈ سپیکر۔ هَواتِف: چیخیں،
پکاریں، صدائیں، آوازیں، نعرہ ہائے مسرت۔
هاتِف القلب: اندرونی، باطنی، مخفی یا پوشیدہ آواز۔
بالهاتف: بذریعہ ٹیلیفون۔ هاتِفي: ٹیلیفون کا،
ٹیلیفون کے متعلق، ٹیلیفون پر۔

هتك: هَتَكَ -هَتْكًا السترَ و نحوهُ: پردہ وغیرہ پھاڑنا،
پردہ وغیرہ کو کھینچ کر اس کی جگہ سے جدا کر دینا، کا کچھ
حصہ پھاڑ کر شگاف کر دینا۔ — الثوبَ: کپڑے کو لمبائی
میں پھاڑنا۔ هَتَكَ اللهُ سترَ الفاجر: اللہ تعالیٰ
بدکار کو رسوا اور ذلیل کرے۔ هُتِكَ عرشُهُ: اس کا
دبدبہ جاتا رہا، اس کی طاقت ختم ہوگئی۔ هَتَّكَ السترَ:
پردہ کو بری طرح پھاڑ ڈالنا۔ تَهَتَّكَ السترُ و نحوهُ:
پردہ وغیرہ کا پھٹ جانا۔ — فلانٌ: رسوا ہونا، ذلیل
ہونا۔ — في البطالة: بیکاری میں اپنے آپ کو
فراموش کر دینا۔ اِنْهَتَكَ السترُ و نحوهُ: پردہ
وغیرہ کا پھٹنا۔ الهُتْك: نصف شب۔ ثوبٌ هَتِكٌ:
پھٹا ہوا کپڑا۔ الهُتْكة: پردہ کا پھٹنا، رات کا ایک
پہر۔ الهَتيكة: رسوائی، فضیحت، سیکنڈل۔ کہا جاتا ہے:
رجلٌ مُتَهَتِّكٌ و مُسْتَهتِكٌ و مُنْهَتِكٌ: بے شرم،
بد چلن آدمی۔

⊙ هَتَكَ -هَتْكًا ہ: پردہ وغیرہ پھاڑ کر جدا کرنا، کو بے
نقاب کرنا، افشا کرنا، ظاہر کرنا، منظر عام پر لانا، ظاہر
کرنا۔ — ها: عورت کو بے آبرو کرنا، عورت کی عصمت
دری کرنا۔ هَتَكَ عِرضَهُ: کو بے عزت کرنا، ذلیل
کرنا۔ هَتَّكَ ہ: کی دھجیاں اڑانا، کو پارہ پارہ کرنا،
پرزہ پرزہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تَهَتَّكَ: پھٹ جانا،
بے شرم ہونا، رسوا ہونا، ذلیل ہونا، بے آبرو ہونا، بے
عزت ہونا۔ — في: کسی شرمناک یا موجب رسوائی کام
میں منہمک ہونا۔ اِنْهَتَكَ: پھٹنا، بے نقاب ہونا، بے
عزت ہونا، ذلیل و رسوا ہونا۔ هُتْكة: رسوائی، ذلت،
تنزل، ہتکی، بے قدری، خفت، بے عزت کرنا، ذلیل
کرنا، بے آبرو کرنا، رسوا کرنا، بے عزتی کرنا۔ هَتْك
الاستار: انکشاف، بے نقابی۔ هَتيكة: بے عزتی،
بے وقری، بے قدری، بری بات، شرم کی بات، خفت،
ذلت، رسوائی، بے غیرتی۔ تهتك: بے شرمی، بد فعلی،
فسق و فجور، بدکرداری، ڈھٹائی، بے تمیزی، بے ادبی،
گستاخی، شوخی۔ مُتَهَتِّك: گستاخ، شوخ، بے ادب،
سرکش، بدتہذیب، بے شرم، بے حیا، ذلیل، بے آبرو،
بے عزت۔ مُسْتَهْتِك: گستاخ، شوخ، بے ادب،
سرکش، بدتہذیب، بے شرم، بے حیا، ذلیل، بے آبرو،
بے عزت۔

هتل: ١۔ هَتَلَ -هَتْلًا و هُتُولًا و تَهْتالًا و هَتَلانات
السماءُ: آسمان کا لگاتار برسنا۔ سَحائِبُ هُتَّل:
لگاتار برسنے والے بادل۔ الهَتَلان: ہلکی لگاتار بارش۔
٢۔ هَتْلَمَ هَتْلَمةً الرجلان: پوشیدہ اور خفیہ بات کرنا۔
الهَتْلَمة (مص): پوشیدہ اور خفیہ بات۔

هتم: ١۔ هَتَمَ -هَتْمًا فاهُ: کے اگلے دانت توڑنا۔ —
الثنيّةَ: اگلا دانت جڑ سے توڑنا۔ هَتِمَ -هَتَمًا:
اگلے دانت ٹوٹے ہوئے والا ہونا۔ صفت: أَهْتَم م
هَتْماء جمع هُتْم۔ هَتَمَهُ بالضرب: کو مار کر کمزور
کرنا۔ أَهْتَمَهُ: کے دانت توڑنا۔ تَهَتَّمَ الشيءُ:
چیز کا ٹوٹنا۔ کہا جاتا ہے: تَهَتَّمَتْ اسنانُهُ: کے دانت
ٹوٹنا۔ تَهاتَما: بمعنی تَهاتَرَ۔ الهُتامة: ٹکڑا، ٹوٹی
ہوئی چیز۔
٢۔ هَتْمَرَ الرجلُ: بہت بولنا۔
٣۔ هَتْمَلَ الرجلُ: آہستہ بولنا۔ — الرجلان: خفیہ اور
پوشیدہ بات کرنا۔ الهَتْمَلة (مص) جمع هَتامِل: خفیہ
اور پوشیدہ بات۔ المُهَتْمِل: چغل خور۔

⊙ هُتامة: ٹوٹ کر الگ ہونے والی چیز، ٹکڑا، شکست و
ریخت، ٹوٹ پھوٹ۔ أَهْتَم مونث هَتْماء جمع هُتْم:
جس کے اگلے دانت نہ ہوں، پوپلا۔

هتن: هَتَنَ -هَتْنًا و هُتُونًا و هَتَنانًا و تَهْتانًا و تَهْتانَ
تِ السماءُ: آسمان سے لگاتار بارش برسنا۔ —
الدمعُ: آنسو ٹپکنا۔ سَحابٌ هاتِنٌ جمع هُتُنٌ و هُتَّنٌ:
لگاتار برسنے والا بادل۔ الهَتَنَى: لگاتار برسنے والی
بارش، لگاتار بارش۔ سَحابٌ هَتُونٌ جمع هُتُنٌ و
هُتُنٌ: لگاتار بارش۔ عينٌ هَتُونُ الدمع: آنسو
بہانے والی آنکھ۔ التَّهْتان: مسلسل بارش، جس میں کڑک
چمک نہ ہو۔

⊙ هَتُون: بارش سے بھرا ہوا یا بھاری (بادل)۔

هتو: هَتا يَهْتو هَتْوًا ہ: کو پاؤں سے روند کر توڑنا۔
هاتى مُهاتاةً ہ: کو دینا۔ کہا جاتا ہے: هاتِ يا
رجلُ: اے آدمی دے۔ هاتي يا امرأةُ: اے
عورت دے۔ ما أُهاتيك: میں تمہیں نہیں دوں گا۔

هث: هَثَّ -هَثًّا: جھوٹ بولنا۔ صفت: هَثّاث (یعنی
جھوٹا)۔
٢۔ هَثْهَثَ هَثْهَثةً الشيءُ: چیز کا مخلوط ہونا۔ — الوالى
الناسَ: والی کا لوگوں پر ظلم کرنا۔ — الشيءَ: کو بخت

رونڈنا۔ ت السحابۃُ بقطرھا: بادل کا موسلا دھار بارش برسانا۔ الھَثھَثَۃ (مص): جنگ یا شور میں مخلوط آوازیں۔ الھثھاث: تیز چلنے والا انسان یا جانور۔ شيءٌ ھَثھاثٌ: مخلوط چیز، گڑبڑ اور بے ترتیب شئے۔ رجلٌ ھَثھاث: جھوٹا آدمی۔

هثم: ھَثَمَ ۔ھَثماً ہُ: کو باریک پیسنا۔ له من ماله: کو مال میں بیعانہ دینا۔ الھَیثَم (ن): کھٹے ذائقہ کا درخت۔ (ح) باز، شکرا یا گدھ یا عقاب کا بچہ، سرخ ریت کا ٹیلہ۔

هثی: ھَثَی یَھثِي ھَثیاناً التراب: مٹی ڈالنا، پھینکنا۔ ھاثی مُھاثاۃً ہُ: سے مزاح کرنا، سے محبت کرنا۔

هج: ۱۔ھَجَّ ۔ھَجّاً و ھجیجاً البیت: گھر کو مسمار کرنا۔ ھَجَجَت العین: آنکھ کا دھنسنا۔ ھَجَّت عینُہُ: کی آنکھ کا دھنسنا۔ اھتَجَّ فی الامر: کسی کام کو کرتے رہنا اور کسی کے مشورہ پر کان نہ دھرنا۔ اِستھجَ فلانٌ: اپنی رائے پر چلنا۔ السیَّارۃَ او القافلۃَ: چلنے والوں یا قافلہ کو جلد روانہ کرنا۔ عینٌ ھاجَّۃٌ: دھنسی ہوئی آنکھ۔ الھجاج: تیز چال۔ کہا جاتا ہے: رکب ھَجاج: اس نے خود درائی سے کام لیا۔ ھَجاجیكَ و ھذا ذیلك: باز آ۔ الھجاجۃ: احمق۔ (رجُلٌ ھَجاجَۃٌ: احمق آدمی)۔ ہر جگہ پھیلنے والا اغبار۔ الھَجیج (مص) جمع ھُجّان: گہری وادی، طویل مسافت والی زمین، زمین پر کھینچی ہوئی کہانت کی لکیریں۔ الاُھجُوج: گہری وادی۔ المُھجَّج فا: دھنسی ہوئی آنکھوں والا۔ عینٌ مُھجَّجَۃ: دھنسی ہوئی آنکھ۔ المُستھجِج: حق و باطل ہر ایک پر بولنے والا۔

۲۔ھَجَّ ۔ھَجیجاً النارُ: آگ کا زور سے بھڑکنا۔ ھَجَّ النار: آگ کو زور سے بھڑکانا۔ الھَجَج: پو کھرے۔

۳۔الھُجّ: بیل کی گردن کا جوا۔

۴۔ھَجھَجَ الفحلُ في ھدیرہ: سانڈ کا سخت آواز نکالنا۔ الرجلَ: کو کسی چیز سے منع کرنا۔ الجملَ او بالجملِ: اونٹ کو ہیج ہیج کہہ کر ڈانٹنا اور روکنا۔ الھَجھاج: احمق، بہت شریر، کم عقل، بہت بلبلانے والا اونٹ، دراز قد آدمی اور اونٹ، مصیبت، بوڑھا۔ یومٌ ھَجھاج: سخت آندھی والا دن۔ الھَجھاجۃ جمع ھَجاھِج: بمعنی ھَجھاج۔ شجر زمین۔ ماءٌ ھُجاھِجٌ: نہ میٹھا نہ کھاری پانی۔

(ف) ھَجَّ ۔ھَجیجاً: جلنا، بھڑکنا، شعلے نکلنا، بھڑک اٹھنا، شعلہ فشاں ہونا۔ ھَجَّجَ ہُ: کو آگ لگانا، شعلہ فشاں کرنا، بھڑکانا، میں کوئلہ ڈالنا۔

هجا: ھَجَأ یَھجَأ ھَجأً و ھُجُوءاً جوعُہُ: کی بھوک کا ختم ہونا، جاتی رہنا۔ ھَجأَ الطعامَ: کھانا کھانا۔ بطنَہُ: اپنے پیٹ کو بھرنا۔ ۔ہُ الطعامُ: کھانے کا کسی کا پیٹ بھرنا۔ ھَجِيءَ یَھجَأ ھَجَأً: کی بھوک بھڑکنا۔ اَھجَأَ اِھجاءً جوعَہُ: کی بھوک دور کرنا۔ فُلاناً الشيءَ: کو چیز کھلانا۔ فلاناً حَقَّہُ: کا حق ادا کرنا۔ الھَجأ (مص): کسی چیز کا منقطع ہونا۔ الھُجَأۃ: بیوقوف مرد یا عورت۔

۲۔تَھَجَّأ الحرفَ: حرف کی ہجے کرنا۔

(ف) ھَجأَ ۔ھَجأً و ھُجُوءاً: بھوک کا رفع ہونا۔ اَھجأَ جُوعَہُ: کی بھوک رفع کرنا۔

هجد: ھَجَدَ ۔ھُجُوداً: رات کو سونا، جاگنا، (ضد)۔ کہا گیا ہے کہ ھُجُود دن کو سونا اور ھُجُوع رات کو سونا ہے۔ ھَجَّدَ تَھجیداً الرجلُ: نیند سے جاگنا، رات کو سونا، رات کو (جاگ کر) نماز پڑھنا۔ فلاناً: کو جگانا، کو سلانا (ضد)۔ اَھجَدَ الرجلُ: سونا۔ فُلاناً: کو سلانا، کو سویا ہوا پانا۔ تَھَجَّدَ الرجلُ: رات کو سونا، جاگنا (ضد)۔ الھاجِد جمع ھُجُود و ھُجَّدٌ: سویا ہوا، رات کو نماز پڑھنے والا۔ الھَجُود جمع ھُجُود و ھُجَّد: رات کو نماز پڑھنے والا۔ التَّھجُّد (مص): رات کی نماز۔ المُتَھجِّد (فا): رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا، رات کو نماز پڑھنے کے لئے نیند سے جاگنے والا۔

(ف) ھَجَدَ ۔ھُجُوداً و تَھَجَّدَ: رات کو جاگتے رہنا، شب بیداری کرنا، رات نماز میں گزارنا۔

هجر: ۱۔ھَجَرَ ۔ھَجراً و ھِجراناً ہُ: سے قطع تعلق کرنا۔ الشيءَ: کو چھوڑنا۔ زوجَتہُ: بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا لیکن اُسے طلاق نہ دینا۔ ھَجراً و ھِجِّیرَی و اِھجِیرَی فی نومہ او مرضہ: نیند یا بیماری میں بکواس کرنا، بڑبڑانا۔ ھَجراً بہ في النوم: کا نیند میں خواب دیکھنا۔ ھَجَّرَ القومُ: لوگوں کا دوپہر کو سفر کرنا۔ النہارُ: دن کی گرمی کا تیز ہونا۔ ھاجَرَ مُھاجَرَۃً من البلد و عنہ: ملک یا شہر سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں چلے جانا، ہجرت کرنا۔ اَھجَرَ اِھجاراً ہُ: کو چھوڑ دینا۔ القومُ: لوگوں کا دوپہر کو سفر کرنا۔ في منطقہ: بکواس کرنا، ہذیان بکنا۔ بفلانٍ: سے ٹھٹھا کرنا یا نامناسب گفتگو کرنا۔ تَھَجَّرَ فلانٌ: مہاجرین کے مشابہ ہونا۔ القومُ: دوپہر کو سفر کرنا۔ تَھاجَرَ القومُ: آپس کا تعلق توڑنا۔ اِھتَجَرَ القومُ: آپس کا تعلق توڑنا۔ ہُ: سے قطع تعلق کرنا۔ الھاجِر (فا): شيءٌ ھاجِرٌ: نہایت عمدہ، دوسری چیزوں سے برتر۔ الھاجِرۃ: جمع ھاجِرات و ھَواجِر: ہاجر کا مؤنث۔ موسم گرما میں دوپہر کا وقت یا سورج ڈھلنے سے عصر تک کا وقت، گرمی کی شدت۔ (کہا جاتا ہے: رَماہُ بِھاجِراتٍ: اس نے اُسے شرمناک اور رسواکن افعال سے متہم کیا۔) ناقۃ ھاجرۃ: برتر اونٹنی۔ الھاجِری: شہری، نہایت فائق، بہت عمدہ۔ الھَجر (مص): قابل حفاظت چیز کو چھوڑنا، دوپہر، گرمی کی شدت، بہت عمدہ۔ کہا جاتا ہے: لقیتُہ عن ھَجرٍ: میں اس سے ایک سال یا چھ دن یا اس سے زائد دنوں بعد ملا، یا غائب رہنے کے بعد ملا۔ ذھبت الشجرۃُ ھَجراً: درخت نے شاخیں نکالیں اور پھیلا۔ الھُجر: اہجار کا اسم، نامناسب کلام، بدگوئی۔ الھِجر: عمدہ اونٹ یا اونٹنی۔ الھَجر: نہایت عمدہ، برتر۔ الھَجرۃ: ہجر کا اسم مرۃ۔ الھِجرۃ: ہجر کا اسم نوع، تہاجُر کا اسم۔ و الھُجرۃ: ہجرت، ایک سرزمین سے نکل کر دوسری سرزمین میں جانا۔ الھُجراء: قبیح گفتگو۔ الھُجرُ: دیہاتوں کی طرف ہجرت، ترک وطن۔ الھُجُوري: دوپہر کے وقت کا کھانا۔ الھَجیر جمع ھُجُر: دوپہر، گرمی کی شدت، جما ہوا دودھ، لمبا چوڑا حوض، بڑا پیالہ۔ الھَجیرۃ: دوپہر، گرمی کی شدت۔ الھِجِّیری: نیند یا بیماری میں ہذیان بکنا۔ الاَھجَر: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے ھذا اَھجر من ذاك: یہ اس سے زیادہ لمبا، ضخیم یا بڑا ہے۔ المُھجِر: شریف، خوبصورت، ہر عمدہ چیز، دوسری چیز سے فائق و برتر۔ المَھاجِر واحد مَھجَر: ہجرت کی جگہیں۔ کہا جاتا ہے تکلَّم بالمھاجر: اس نے فحش کلامی کی۔ رَماہُ بمُھجِرات: اس نے اس پر رسواکن باتوں کا الزام لگایا۔ المَھجُور (مفع): سونے والے یا بیمار کی ہذیان، بکواس، متروک الاستعمال لفظ وغیرہ۔ کہا جاتا ہے:

الغلط المشھور لا الصحیح المھجور:

مَھجُور غلط لفظ جو لوگوں میں مشہور ہو جائے یا غلط العام ہے۔

۲۔ھَجَرَ ۔ھَجراً و ھُجُوراً البعیرَ: اونٹ کو پاؤں باندھنے کی رسی سے باندھنا۔ الھاجِري: معمار۔ الھِجار: مہار۔ الھَجُور: تھکاوٹ کی وجہ سے بمشکل چلنے والا۔ الھَجُورۃ: بہت موٹی عورت۔ الھِجار: اونٹ کے پاؤں باندھنے کی رسی، تانت، طوق، تاج۔ الھَجیر جمع ھُجُر: رسی سے بندھا ہوا اونٹ۔ الھِجِّیرَیاء: عادت۔ الھِجِّیر و الھِجِّیرۃ:

عادت۔ الهِجِّيرَى: عادت۔ کہاجاتا ہے هذا هِجِّيرَاهُ: یہ اس کی عادت ہے۔ الأُهْجُورَة والإهْجِيرَى والإهْجِيرَاء: عادت۔

۳۔ هَجَّر الى الشيء: کو صبح سویرے کرنا، کو جلدی سے کر ڈالنا۔ تَهَاجَرَ القومُ الماءَ: لوگوں کا پانی لینا۔

۴۔ الهَجْرَاء: کفایت۔ کہاجاتا ہے ما عنده غناءُ ذلك ولا هجراؤُه: اس کے پاس اتنا نہیں جو کافی ہو۔ الهَجِير: کوفہ اور بصرہ کے درمیان کا علاقہ۔ ــ جمع هُجُر: موٹا گورخر۔ عددٌ مُهْجِر: بہت، وافر۔

۵۔ الهُجْرِس جمع هَجَارِس (ح): بندر، لومڑ۔ یا لومڑی کا بچہ (ح): ریچھ، کمینہ۔ الهَجَارِس: زمانہ کی سختیاں۔

۶۔ الهَجْرَع والهِجْرَع: پاگل احمق، لمبا لنگڑا (ح) ہلکا پھلکا شکاری کتا۔

○ هَجَر ـ هَجْرًا و هِجْرَانًا: ترک وطن کر کے دوسرے دیس میں جا بسنا۔ ـ ه/ه: سے قطع تعلق کرنا، سے علیحدہ ہونا، جدا ہونا، سے دور رہنا، الگ ہونا، کی رکنیت چھوڑنا۔ ـ ه: سے جدا ہونا۔ ـ ه: کو چھوڑنا، ترک کرنا، سے دست کش ہونا، دست بردار ہونا، کے بغیر گزارہ کرنا، کو اپنا ماننے سے انکار کر دینا، سے پہلو تہی کرنا، بچنا، کنی کترانا، احتراز یا گریز کرنا۔ ــ ه بلی: کو کے سپرد کرنا، کیلئے پیچھے چھوڑنا، کو کے لئے چھوڑنا، کو کے حق میں خالی کرنا، چھوڑنا۔ هَجَّر ه: کو ترک وطن پر اکسانا۔ هاجر: ترک وطن کر کے دوسرے دیس میں جا بسنا۔ أهْجَر ه: کو چھوڑنا، ترک کرنا۔ ـ بیہودہ بات کرنا، بے وقوفی کی باتیں کرنا۔ تَهَاجَرَ: ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دینا، علیحدہ ہو جانا۔ هَجْر: ترک، دست کشی، دست برداری، بے تعلقی، علیحدگی، جدائی، احتراز، پہلو تہی، کنی کترانا، اجتناب، پرہیز، بچتے رہنا، محبوب سے علیحدگی، مفارقت، دن کا گرم ترین وقت۔ هُجْر: فحش زبان، خلاف تہذیب زبان۔ هِجْرَة: رخصت، روانگی، رحلت، کنارہ کشی، گریز، کوچ، ترک وطن، ہجرت، خروج۔ الهِجْرَة: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ۶۲۲ء میں مدینہ میں ہجرت۔ دار الهِجْرَة: مدینہ منورہ۔ هِجْرِی: ہجرت کا، رسول اللہ ﷺ کے ترک وطن کے متعلق۔ سَنَة هِجْرِيَة: سن ہجری، مسلمانوں کے تاریخی دور کے آغاز کا سال، جو نبی کریم ﷺ کے ترک وطن سے شروع ہوا۔ هُجْرَة و هِجْرَة جمع هُجَر و هِجَر: نجد میں وہابی اخوان کی زرعی نو آبادی۔ هُجْرَاء: فحش زبان۔ هَجِير: دوپہر کی گرمی۔ هَجِيرَة: دوپہر کی گرمی، نصف النہار، دوپہر۔ مَهْجَر جمع مَهَاجِر: ترک وطن کی جگہ جائے پناہ، ترک وطن، نو آبادی۔ مَهَاجِر: مغلظات، فحاشی، بے حیائی، (بازاریت)۔ مُهَاجَرَة: ترک وطن۔ هَاجِرَة جمع هَوَاجِر: دوپہر کی گرمی، دوپہر، وسط النہار۔ جمع هَاجِرَات و هَوَاجِر: فحش زبان، فحاشی، مغلظات، بازاریت۔ هَاجِرِی: دوپہر کی یا کا، عمدہ، اعلیٰ، ممتاز۔ مَهْجُور: ترک کیا ہوا، چھوڑا ہوا، فراموش کیا ہوا، منہ موڑا ہوا، بے مونس و غمخوار، بے یار و مددگار، تنہا، اکیلا، اداس، گوشہ نشین، ملول، سنسان، متروک الاستعمال، منسوخ، فرسودہ، دقیانوسی، متروک قرار دیا ہوا، پرانا قرار دیا ہوا، قدیم، پرانا۔ مُهَاجِر: ترک وطن کرنے والا، ہجرت کرنے والا۔ المُهَاجِرُون: مکہ کے لوگ جنہوں نے اسلام کے آغاز میں مدینہ منورہ ہجرت کی۔

هجز: هَاجَزَ مُهَاجَزَةً ه: سے کانا پھوسی کرنا۔

هجس: ۱۔ هَجَسَ ـ هَجْسًا الشيءُ في صدره: کے دل میں اچانک خیال آنا۔ هَاجَسَ ه: سے چپکے چپکے بات کرنا۔ الهَاجِس (فا) جمع هَوَاجِس: اندیشہ، وسوسہ۔ الهَجْس (مص): ہلکی آواز جو سنی جائے مگر سمجھ میں نہ آئے، اندیشہ، وسوسہ۔ الهَجَّاس (ح): آواز کو سننے والا شیر۔ المَهْجُوس (مفع): کہاجاتا ہے وقعوا في مَهْجُوسٍ مِنَ الامر: وہ مشکل میں پڑ گئے۔

۲۔ هَجَسَ ـ هَجْسًا فلانًا: کسی کو کسی کام سے روکنا۔ إنْهَجَسَ من الامر: کسی امر سے باز رہنا۔

۳۔ الهَجِيسَة: مشکیزہ میں بگڑا ہوا دودھ۔ خُبْزٌ مُتَهَجِّسٌ: بے خمیری روٹی۔

○ هَجَسَ ـ هَجْسًا في نفسه: کے دل میں اچانک کوئی بات آنا، کے ذہن میں آنا۔ هَجَسَ ـ هَجْسًا: منہ ہی منہ میں کچھ کہنا، بڑبڑانا، آہستہ کہنا، اپنے آپ سے باتیں کرنا۔ هَجْس: فکر خیال، احمقانہ بات۔ هَجْسَة جمع هَجَسَات: خیال، فکر، تصور، وہم و گمان، خوف، اندیشہ، پریشانی، شک، بے اعتمادی، تشویش، ضمیر کی خلش، ضمیر کی خلش کے باعث تذبذب۔ جمع هَجَسَات: معینہ افکار، اندیشے، شکوک۔ هَجَّاس: شیخی خورہ، شان دکھاتے پھرنے والا۔ هَاجِس جمع هَوَاجِس: فکر خیال، تصور، خوف، اندیشہ، پریشانی، تشویش، شک، بے اعتمادی، ضمیر کی خلش۔ جمع هَوَاجِس: معینہ افکار، اندیشے، شکوک۔

هجش: هَجَشَ ـ هَجْشًا: اکسانا۔ ـ الدَّابَّة: جانور کو نرمی سے ہانکنا۔ ـ بين القوم: قوم میں فساد ڈالنا۔

ـ ـ ـ ت لَهُ نفسي: (دل کا) کسی بات کا آرزومند ہونا، متمنی ہونا۔ الهَاجِشَة جمع هَوَاجِش: لوگوں کی جماعت۔ کہاجاتا ہے جاءت هاجشة من الناس: لوگوں کی ایک جماعت آئی۔ الهَجْشَة: بار، مرتبہ، اٹھنا۔

○ هَجَصٌ: شرارت، تکلیف دہ (شخص، چیز کام)۔ اودہم اور شور و شغب والا کھیل۔

هجع: هَجَعَ ـ هُجُوعًا و تَهْجَاعًا: رات کو سونا، سونا۔ کہاجاتا ہے هَجَعَ جُوعَهُ هَجْعًا فهَجَعَ جُوعُهُ هُجُوعًا: اس نے اپنی بھوک کو مٹایا تو وہ مٹ گئی۔ هَجَعْتُ اليه فخَدَعَني: میں نے مانوس او جھک کر اس پر بھروسہ کیا تو اس نے مجھے دھوکا دیا۔ هَجَّعَ تَهْجِيعًا القومَ: لوگوں کا سو جانا۔ أهْجَعَ جوعَهُ: کی بھوک مٹانا۔ الهَاجِع جمع هُجُوع و هُجَّع فا۔ الهَاجِعَة جمع هُجَّع و هُجُوع و هَوَاجِع و جمع هَوَاجِعَات: رات کو سونے والی۔ الهِجْع و الهَجِع والهِجَع: غافل احمق۔ الهِجْعَة: سونے کا طریقہ۔ رَجُل هِجْعَة: غافل اور احمق آدمی۔ الهَجْعَة: نیند۔ کہاجاتا ہے اتيتُ فلانا بعد هَجْعَةٍ: میں شروع رات میں ہلکی نیند کے بعد فلاں شخص کے پاس گیا۔ الهُجَعَة: بہت سونے والا، غافل احمق۔ الهَجِيع من الليل: رات کا ایک حصہ۔ کہاجاتا ہے: مضى هَجِيع من الليل: رات کا ایک پہر گزرا۔ التَّهْجَاع: ہلکی نیند۔ المُهْجَع: غافل، احمق، جلد بھروسہ کرنے والا، ہر ایک کا مطیع۔

○ هَجَعَ ـ هُجُوعًا: اطمینان کی نیند سونا، خاموش ہونا یا ہو جانا، فرو ہونا، ساکن ہونا، عام سطح پر آنا، بیٹھ جانا۔ ــ هَجَّعَ ه: بھوک مٹانا۔ أهْجَعَ ه: بھوک مٹانا، گھٹانا، دھیما کرنا، کم کرنا۔ هَجْعَة: نیند، خواب۔ هُجُوع: نیند، خواب، عارضی سکون، (خطرے سے پہلے کا) سکوت، تسکین، تسلی، ٹھہراؤ، اُتار، کمی، تخفیف، گھٹاؤ، رعایت، اترنا، گھٹنا (بخار بیماری وغیرہ کا)۔ مَهْجَع جمع مَهَاجِع: کمرۂ خواب، سکونت گاہ، اقامت گاہ، قطار در قطار حجروں میں سے ایک حجرہ یا کمرہ۔ رئيس المَهْجَع: بیرکوں کا سارجنٹ، اردلی۔

هجف: ۱۔ هَجَفَ ـ هَجَفًا: بھوکا اور ڈھیلے پیٹ والا ہونا، کے کوکھوں کا پہلوؤں سے لگا ہوا ہونا۔ إنْهَجَفَ: لاغری سے ہڈیوں کا دکھائی دینا۔ الهَجْفَان: پیاسا۔ الأهْجَف م هَجْفَاء: لاغر، دبلا۔

۲۔ الهِجَفّ: سخت جسم سست شتر مرغ یا آدمی، موٹا دراز قد

آدمی، بڑے پیٹ والا۔

هجل: ا۔ هَجَلَ ـ هَجْلاً بِالمراۃ بعینها: آنکھ سے اشارہ کرنا، آنکھ مارنا۔ هَاجَلَ مُهَاجَلَةً: پست وہموار زمین میں چلنا۔ ـــــ فُلاناً: سے مقابلہ کرنا۔ أَهْجَلَ القَوم: قوم کا ہموار زمین میں آنا۔ ـ الإبِلَ: اونٹوں کو آزاد چھوڑ دینا۔ ـ المالَ: مال و دولت ضائع کرنا۔ الهَاجِل: سونے والا، بہت سفر کرنے والا۔ الهَجْل (مص) جمع أَهْجَال و هِجَال و هُجُول: پست ہموار زمین۔ الهَجْلَة جمع هَجَلات: پست ہموار زمین۔ الهَجُول: فاحشہ عورت۔ الهَجِيل: پست ہموار زمین، اچھی طرح نہ بنا ہوا حوض۔

۲۔ هَجَلَ ـ هَجْلاً بالقصبة و غيرها: نرسل وغیرہ پھینکنا۔ هَجَلَ عِرْضَهُ: کی بے عزتی کرنا۔ ـــــ بفلان: کو گندی باتیں سنانا، گالیاں دینا۔ الهَجْلَة جمع هَجَلات: هَجَل کا اسم مرۃ۔ دُمُوعٌ هُجُولٌ: بہتے آنسو واحد هاجل۔

۳۔ أَهْجَلَ الشیءَ: کو وسیع کرنا۔

۴۔ إِهْتَجَلَ الشیءَ: کو ایجاد کرنا۔

ⓤ هَجَلَ ـ هَجْلاً: عاشقانہ نظر ڈالنا، پیار کی نظروں سے دیکھنا، محبت بھری نظروں سے دیکھنا۔

هجم: هَجَمَ ـ هُجُومًا علیه: کے پاس اچانک آجانا بغیر اجازت آجانا، اسی سے لشکروں کا ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ـــــ البردُ او الشتاءُ: سردی کا اچانک شروع ہونا۔ ـ البیتُ: گھر کا منہدم ہونا۔ ـــــ هَجْمًا فلانا علی القوم: کو قوم کے سامنے اچانک لانا۔ ـــــ البیتَ: گھر کو گرانا۔ ـــــ الهَوَاجِرُ فلاناً: گرم دنوں کا کسی کا پسینہ بہانا۔ ـ ما فی الضرع: تھن کا سارا دودھ دوہ لینا۔ ـــــ الدابَّةَ: جانور کو زور سے ہانکنا۔ ـــــ فلاناً: کو دھتکارنا۔ ـــــ هَجْمًا و هُجُومًا عینُهُ: کی آنکھ کا دھنسنا۔ ـــــ الشیءُ: سکون پانا۔ ـ المرضُ: بیماری کا ہلکا ہونا۔ ـ فلانٌ: خاموش ہونا، سر جھکانا۔ هَجَمَ هُ: کو اچانک لانا۔ هَاجَمَ مُهَاجَمَةً هُ: اچانک ایک دوسرے پر آ پڑنا، پر اچانک حملہ کرنا۔ أَهْجَمَ هُ علیهم: کو ان کے پاس اچانک لانا۔ ـ الإبلَ: اونٹ کو آرام دینا۔ ـ اللهُ المرضَ عنه: اللہ تعالیٰ کا کسی کی بیماری کو دور کرنا۔ ـ ما فی الضرع: تھن کا سارا دودھ دوہ لینا۔ تَهَجَّمَ علی الشیءِ: پر تکلف سے جا پڑنا۔ تَهَاجَمَ: ایک دوسرے پر اچانک آ پڑنا۔ إِنْهَجَمَ البیتُ: گھر منہدم ہونا۔ ـــــ الدمعُ او العَرَقُ: آنسو یا پسینہ کا بہنا۔ ـــــ ت العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ إِهْتَجَمَ ما فی الضرع: تھن کا سارا دودھ دوہ لینا۔ إِهْتَجَمَ الرجلُ: کمزور ہونا۔ الهَجْم (مص) جمع أهجام: بڑا پیالہ، پسینہ۔ الهَجَم: بڑا پیالہ۔ الهَجْمَة: هجم کا اسم مرۃ، رات کی ابتدائی تاریکی (کہا جاتا ہے: جئتهُ بعد هجمة من الليل: میں رات کی ابتدائی تاریکی پھیلنے کے بعد اُس کے پاس گیا) بوڑھی بھیڑ۔ ـــــ من الشتاء: سخت سردی۔ ـ من الصيف: سخت گرمی۔ ـــــ من الابل: چالیس یا ستر سے لے کر سو تک اونٹوں کا گلہ۔ الهَجَّام: قوم پر بہت ہجوم کرنے والا، بہادر (ح): شیر۔ الهَجُوم: تیز کودنے والا، پسینہ آور۔ کہا جاتا ہے: استحِمَّ فإنَّ الحمَّام هَجُومٌ: اس نے غسل کیا کیونکہ غسل عرق آور ہے)۔ ـ من الرياح: تیز ہوا۔ الهَجِيمَة: گاڑھا دودھ۔ الهَيْجُمَانَة: موتی۔ (ح): نرکڑی۔ الإِهْتِجَام: آخر شب۔ المَهْجُوم: گرا ہوا گھر۔ بیت مَهْجُومٌ: خیمہ جس کی طنابیں کھول دی جائیں۔

ⓤ هَجَمَ ـ هُجُومًا علی: کی طرف جانا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا، پر حملہ کرنا، ہلہ کرنا، پر دھاوا بولنا، پر چھاپا مارنا، کو اچانک لینا، کو اچانک حملہ میں قابو کرنا، فتح کرنا، میں دھم سے کودنا، درانہ گھس آنا، میں بلا اجازت داخل ہونا، زبردستی گھسنا، کے سر پر زبردستی جا مسلط ہونا، میں مداخلت بیجا کرنا، پر چڑھائی کرنا، پر چڑھ دوڑنا، پر حملہ آور ہونا۔ هَجَمَ ـ هُجُومًا: خاموش رہنا۔ هَجَّمَ هُ: سے حملہ کرانا، کو حملہ کرنے کا حکم دینا۔ هَاجَمَ ه/ ها: پر حملہ کرنا، دھاوا بولنا۔ ـــــ ه: پر حملہ شروع کرنا، کی طرف جانا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل مار کر دبوچ لینا، پر حملہ آور ہونا، حملہ یا ہلہ کرنا، دھاوا بولنا، پر ٹوٹ پڑنا، میں دھم سے کودنا، میں درانہ گھس آنا، پر حملہ آور ہونا، میں مداخلت بے جا کرنا، میں مجرمانہ مداخلت کرنا، میں بلا اجازت داخل ہونا۔ أَهْجَمَ بمعنی هَجَمَ۔ تَهَجَّمَ علی: پر ٹوٹ پڑنا۔ تَهَاجَمَ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ إِنْهَجَمَ: (مکان وغیرہ کا) گر پڑنا، کمزور صحت والا ہونا، اخلاقی کمزوری والا ہونا، (عورت کا) بے عصمت ہونا، (آنسوؤں کا) بہنا، (آنکھ کا) آنسو بہانا۔ هَجْمَة جمع هَجَمَات: حملہ، ہلہ، دھاوا، سخت حملہ، چھاپہ، اچانک حملہ، بھرپور وار، سردی کی شدت۔ هَجْمَة مُعَاكِسَة: جوابی حملہ۔ هَجْمِي: جارحانہ، شدید، سخت، انتہائی شرمناک، سخت ظالمانہ، دل ہلا دینے والا، اخلاق سوز، توہین آمیز، حد سے بڑھا ہوا، وحشیانہ، بہیمانہ، ظالمانہ، سفاکانہ۔ هُجُوم: تیز و تند ہوا۔ هُجُوم: حملہ، ہلہ، دھاوا، سخت حملہ، چھاپہ، اچانک حملہ، (بیماری کا) حملہ یا اچانک غلبہ یا دورہ، محاذ، آگے کھیلنے والے۔ هُجُومٌ جانبيٌّ: میمنہ یا میسرہ پر حملہ (flank attack)۔ هجومٌ جَوِّيٌّ: ہوائی حملہ۔ هجومٌ مُضَاد یا هجومٌ مُعَاكِس: جوابی حملہ۔ خطُّ الهجوم: اگلی صف۔ قلبُ الهجوم: سنٹر فارورڈ (centre forward)۔ هُجُومِي: جارحانہ، جارحیت پر مبنی۔ مُهَاجَمَة: حملہ، دھاوا، ہلہ، چھاپہ، اچانک حملہ، سخت حملہ، پولیس کا ریڈ (چھاپہ)۔ تَهَجُّم جمع تَهَجُّمات: حملہ، دھاوا، ہلہ، چھاپہ، اچانک حملہ۔ مُهَاجِم: حملہ آور، جارح آگے کھیلنے والا (فٹ بال وغیرہ میں)۔

هجن: ا۔ هَجُنَ ـ هُجْنَةً و هَجَانَةً و هُجُونَةً: کمینہ ہونا۔ ـــــ الكلامُ: غلط ہونا۔ هَجَّنَ تَهْجِينًا هُ: کو عیب دار بنانا۔ ـــــ الامرَ: کو برا بنانا، عیب دار بنانا۔ إِسْتَهْجَنَ فعلَهُ: کے فعل کو برا جاننا، قابل نفرت جاننا۔ کہا جاتا ہے: هذا مما يُسْتَهْجَنُ ذكرُهُ: یہ ایسا فعل ہے جس کا ذکر بھی قابل نفرت ہے۔ الهَاجِن (فا) جمع هَوَاجِن: پہلی ضرب پر آگ نہ دینے والی چقماق۔ الهُجْنَة (مص) جمع هُجَن من الكلام: نقص، برائی، غلط کلام۔ ـ فی العلم: تضیع علم، عام لوگ هُجْنَة ہر تر چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں جسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ الهَجِين جمع هُجُنٌ و هُجَنَاء و هُجْنَانٌ و مَهَاجِينُ و مَهَاجِنَةٌ مونث هَجِينَة جمع هُجُن و هِجَان و هَجَائِن: کمینہ، لئیم، جس کا باپ عرب اور ماں لونڈی ہو۔ کہا جاتا ہے: فرسٌ و برذونةٌ هجينٌ: خراب نسل کا گھوڑا یا ٹٹو۔ ـــــ جمع هُجُن و هَوَاجِن من الخيل: وہ گھوڑا جو ترکی گھوڑی اور عربی گھوڑے سے پیدا ہو۔ لَبَنٌ هَجِين: ملاوٹ والا دودھ۔ المَهْجَنَة و المَهْجَنِيّ و المَهْجُنى و المَهْجُناء: ناکارہ لوگ، بے خیر لوگ۔

۲۔ هَجَنَ ـ هَجْنًا: ہاجن ہونا۔ أَهْجَنَ الرجلُ: اچھی نسل کے اونٹوں والا ہونا۔ ـ الجاريةَ: بلوغت سے پہلے لڑکی کی شادی کرنا۔ أُهْتُجِنَت الشاةُ: بکری کا حمل ظاہر ہونا۔ الهَاجِن جمع هَوَاجِن: وہ بچی جس کی شادی بلوغت سے پہلے ہو جائے، وہ کھجور کا درخت جو چھوٹا ہونے پر بھی پھل دے۔ الهَاجِنَة: هاجن کا مؤنث۔ کھجور کا درخت جو چھوٹا ہونے پر پھل دے رہا ہو۔ الهِجَانُ من كل شيءٍ: ہر عمدہ و خالص شے۔ ـــــ من الابل: سفید نسل کا اچھا اونٹ (مذکر، مونث جمع سب کے لئے یکساں)۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: بعير هجان و ناقة هِجانٌ و ابل هجانٌ: کبھی

جمع کی صورت میں هجائن بھی کہا جاتا ہے۔رجُلٌ هِجَان: خاندانی مرد۔امراۃ هِجَانٌ: خاندانی عورت۔ نسوۃٌ هجائن: خاندانی عورتیں۔ارضٌ هِجَانٌ: نرم مٹی کی سفید زمین۔الهجانَة: حسب،شرافت، سفیدی۔علمَةٌ أُهْجُنَةٌ: بلوغ سے پہلے شادی شدہ لڑکے۔المُهْجِنَة: پہلی بار نر کے پھول ڈالی ہوئی کھجور، چھوٹا ہوتے ہوئے بار آور کھجور۔ بچی،لڑکی۔ المُهَجَّنة من النوق: اچھی نسل کے سانڈ سے گابھن اونٹنی، پہلی بار کی حاملہ اونٹنی، کھجور جس پر پہلی بار نر کا پھول ڈالا جائے۔

۳۔الهَجنَف جمع هَجَانِف: لمباچوڑا۔

ⓒ هَجُن ـهُجْنَةً و هَجَانَةً: غلط ہونا، ناقص ہونا، ناکارہ،خراب یا نکما ہونا۔هَجَّنَ ہ: کی جلد ادھیڑنا، کھال ادھیڑنا یا کھینچنا، پرسختی سے تنقید کرنا، کو ایذا دہی کے طور پر ڈانٹنا، ملامت کرنا، کو حقیر سمجھنا، کی برائیاں کرنا۔اِسْتَهْجَنَ ہ: کو برا، غلط یا نامناسب سمجھنا، کو ناپسند کرنا، کو رد کرنا، ناکارہ قرار دینا، مسترد کرنا۔ هُجْنَة: نقص، خرابی،کوتاہی،قصور،خامی،کمزوری، کمینگی،کمینہ پن،حرامی پن۔هَجَّان جمع هَجَّانَة: شترسوار۔هجین جمع هُجُن و هُجَنَاء و مَهَاجين و مَهَاجِنَة: نیچا،کمینہ،کم ظرف،کم اصل،رذیل، ذلیل۔ جمع هُجُن: دوڑنے والا اونٹ،اونٹنی،ناقہ، سانڈنی۔هَجِينَة جمع هَجَائِن: دوڑنے والا اونٹ، اونٹنی،ناقہ،سانڈنی۔استهجان: ناپسندیدگی،نفرت، ناراضامندی،ناخوشی،نامنظوری،انکار۔

هجو: ا۔هَجَا يَهْجُو هَجْوًا و هِجَاءً و تَهْجَاءً ہ: کے عیب گننا، کی برائی بیان کرنا، کو گالی دینا، کی ہجو کرنا، صفت فاعلی هاجٍ صفت مفعولی مَهْجُوّ۔ هَجَاوَة اليوم: دن کا سخت گرم ہونا۔هَاجَاهُ مُهَاجاۃ: ایک دوسرے کی ہجو کرنا۔أَهْجَى إهْجَاءً القولَ: قول کو ہجو آمیز پانا۔تَهَاجَيَا تَهَاجِيًا و اهْتَجَيَا اِهْتِجَاءً: ایک دوسرے کی ہجو کرنا۔الهَجَاة (ح): مینڈک۔الهَجَّاءُ: بہت ہجو کرنے والا۔کہا جاتا ہے: رجُلٌ هَجَّاءٌ: بہت ہجو کرنے والا آدمی۔الأُهْجُوَّة والأُهْجِيَّة جمع أهاجي: ہجو (قطعہ یا قصیدہ کی صورت میں) کہا جاتا ہے بينهم أُهْجُوَّة او أُهْجِيَّة يتهاجون بها: ان کے درمیان ہجو بازی چل رہی ہے۔

۲۔هَجَا يَهْجُو هَجْوًا و هِجَاءً الحروف: حروف کی ہجے کرنا۔ــــ هجاء: پڑھنا۔هَجّى تَهْجِيَةً الحروف: حروف کی ہجے کرنا۔ــــ اللفظةَ: لفظ کے حروف کا جوڑ کرنا۔ــــ الصبيّ الكتابَ: بچے کو کتاب پڑھانا۔تَهَجَّى تَهَجِّيًا الحروفَ: حروف کی ہجے کرنا۔الهِجاء: حروف کا جوڑ،حروف ــــ الهجاء: الف سے لے کر یاء تک کے حروف۔ان کو حروف التهجي اور حروف التهجية بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے هذا على هجاء هذا: یہ اس کی شکل پر ہے۔هو على هجاء فلان: وہ فلاں پر گیا ہے، اتنا ہی لمبا ہے اور ویسی ہی شکل ہے۔

ⓒ هجا ـهَجْوًا و هِجَاءً ہ: کا مذاق اڑانا،ہنسی اڑانا،کو ہیچ سمجھنا، کا استہزاء کرنا، کی ہجو کرنا، پر طنز کرنا، کو بدنام کرنا، کا حقارت سے ذکر کرنا، کی برائیاں کرنا، کی سخت ہجو کرنا، کی ہجو قبیح کرنا۔هَاجَاهُ: کے خلاف ہتک آمیز یا ہجویہ نظمیں لکھنا، کی ہجو کرنا۔هَجّى و تَهَجّى ہ: کی ہجے کرنا۔تهاجا: ہجویہ اشعار میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔هجو: مذاق اڑانا، بدنام کرنا،ہنسی اڑانا، ہیچ سمجھنا،حقارت سے ذکر کرنا، برائیاں کرنا، ہجو کرنا، ہجو،ہنسی،مذاق،طنز،ہجویہ اشعار۔هَجْوِي: بدنام کن،ہجوی،استخفافی۔هِجَا: استہزاء،تحقیر،مذاق، تمسخر،طنز،طعن و تشنیع، چڑانا یا مضحکہ اڑانا،تعریض، ہجویہ تصنیف،طنزیہ نظم،بدنام کن نظم۔جمع أَهْجِية: ہجے،حروف کی لگاتار ترتیب ابجد۔هِجائي: ابجدی، تعریفی،طنز آمیز،ہجویہ۔أُهْجُوَّة و أُهْجِيَّة جمع أَهَاجِي: ہجوی نظم،مذمت،ہجو،ہجو قبیح۔

هدّ: ا۔هَدَّ ـهَدًّا و هُدُودًا البناءَ: عمارت کو دھڑام سے گرا دینا۔هَدَّتْهُ المُصِيبَةُ: مصیبت نے اس کے اعضا کو کمزور کر دیا۔هَدَّني هذا الامر او هَدَّ رُكْني: اس معاملہ نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، جوڑ جوڑ ہلا دیا۔ــــ هَدًّا الرجُلُ: بوڑھا ہونا۔ــ هَدًّا البعيرُ: اونٹ کا بلبلانا۔ــــ هَدِيدًا الحائطُ و نحوُهُ: دیوار وغیرہ کا دھماکے سے گرنا۔کہا جاتا ہے: هذا رجلٌ هَدَّكَ مِن رجُلٍ: یہ مرد تم سے زیادہ طاقت ور ہے۔بعض اس کو مصدر مان کر اس کا تثنیہ جمع،جمع یا اس کو مونث وغیرہ کی شکل میں نہیں لاتے اور بعض اس کو فعل جان کر یہ سب صورتیں اس میں جائز رکھتے ہیں۔مررتُ برجلٍ هَدَّكَ من رجُلٍ و بامراۃٍ هَدَّتْكَ من امراۃٍ و برجلين هدّاك و برجال هدُّوك و بامراتين هَدَّتاك و نِساءٍ هَدَدْنَكَ: میں ایک مرد، ایک عورت، دو مردوں یا دو سے زائد مردوں، دو عورتوں یا دو سے زائد عورتوں کے پاس سے گزرا جو تم سے زیادہ طاقتور اور سخت تھیں۔انه لَهَدّ الرجُل: وہ ایک بہت ہی اچھا آدمی ہے۔مطلق تعجب کے معنی میں بھی مستعمل ہے جیسے فلان يُهَدُّ: وہ دھن کا پکا ہے۔هَدَّدَ و تَهَدَّدَہُ: کو ڈرانا،دھمکانا۔ تَهَادَّ تَهَادًّا القومُ: ایک دوسرے کی پیروی کرنا۔ اِنْهَدَّ الجبلُ او البيتُ: ٹوٹنا،گرنا۔اِسْتَهَدَّہُ: کو کمزور سمجھنا۔الهادّ (فا): سمندر کا شور۔الهادَّة: هاد کا مونث۔گرج کہا جاتا ہے ما سمعنا العامَ هادّةً: ہم نے سال بھر گرج نہیں سنی۔الهَدُّ (مص): فیاض آدمی، سخت آواز۔ــــ والهِدّ جمع هَدُّونَ و هِدُّونَ: کمزور آدمی۔الهَدَد: سخت آواز۔الهَدَّة: هَدّ کا اسم مرۃ، دیوار وغیرہ گرنے کی آواز۔الهَدَاد: نرمی،مہربانی۔ هَدَادَيْكَ: نرمی سے،آہستہ سے،آرام سے،دھیرج سے،تحمل سے۔قوم هَدَاد: بزدل لوگ۔الهَدَادَة: بزدل۔کہا جاتا ہے رَجُلٌ هَدَادَة: بزدل آدمی۔ الهَدُود: میدانی زمین،مشکل گھاٹی۔اَكَمَةٌ هَدُودٌ: سخت ڈھلان والی پہاڑی۔الهَدِيد (مص): حماکہ کی آواز، گنگناہٹ۔الأَهَدّ: بزدل۔التَهَدُّد: ڈرانا،دھمکی۔المِهَدَّة: پتھر توڑنے کا آلہ۔کہا جاتا ہے: جاؤوا مُتَهادين و مُتَساتلين: وہ ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہوئے آئے۔

۲۔الهَدِيد: دراز قد مرد۔

۳۔هَدْهَدَ هَدْهَدَةً البعيرُ: اونٹ کا بڑبڑانا۔ــــ الطائرُ: پرندے کا غٹرغوں غٹرغوں کرنا۔ــــ بِالصبيّ اُمُّهُ: ماں کا بچہ کو سلانے کے لئے ہلانا۔ــــ الشيءَ من علوٍ إلى اسفل: چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا،گرانا۔کہا جاتا ہے يُهَدْهَدُ إليَّ كذا: مجھے یوں خیال آتا ہے۔الهَدْهَد: جنوں کی آوازیں۔ الهُدْهُد واحد هُدْهُدَة جمع هَدَاهِد و هَدَاهِيد (ح): ہدہد۔(کہتے ہیں أَبْصَرُ من هُدْهُدٍ: ہدہد سے بھی زیادہ تیز نظر، کیونکہ عرب کا خیال ہے کہ ہدہد زمین کے نیچے پانی کو دیکھ لیتا ہے۔) ہر کوکو کرنے والا پرندہ، بہت کوکو کرنے والا کبوتر۔الهُدَهِد واحد هُدَهِدَة جمع هَدَاهِد و هَدَاهِيد (ح): ہدہد۔الهُدَاهِد واحد هُدَاهِدَة جمع هَدَاهِد و هَدَاهِيد (ح): ہدہد۔ الهَدَاهِد: نرمی،صبر۔عليك بالهَدَاهِد: صبر کرو۔

ⓒ هَدَّ ـهَدًّا و هُدُوًّا ہ: کو توڑنا، کچلنا،گرانا،تباہ کرنا، ــــ ہ/ہ: کو نیچے سے کاٹنا، کی اندر ہی اندر جڑیں، کھوکھلی کرنا، کو کمزور کرنا، تباہ کرنا۔ــــ هَدِيدًا: گر پڑنا۔ــــ هَدًّا: کمزور ہونا،خستہ حال ہونا، درماندہ ہونا۔هَدَّدَہُ ب: کو کے ذریعے دھمکانا، کے لئے کا خطرہ بننا۔ــــ ہ: کو ڈرانا، خائف کرنا، دھمکانا، کی ہمت توڑنا، حوصلہ شکنی کرنا، کو مرعوب کرنا، پر رعب ڈالنا،

کوگھر کنا۔تَہَدَّدَ: بمعنی هَدَّدَ۔ اِنْهَدَّ: پھٹ جانا، مسمار ہونا، گرنا، تباہ ہونا، گر پڑنا، ٹوٹا پھوٹا ہونا، ٹوٹا ہوا یا شکستہ ہونا، تباہ ہونا۔هَدّ: گرانا، تباہ کرنا، مسماری، تباہی۔هَدّ و هَدِید: بھاری یا بھد سے گرنا، دھمک یا بھد سے گرنے کی آواز، گرتی چیز کی گڑگڑاہٹ۔

هَدَاد: نرمی، سستی۔مِهَدَّة: پتھر توڑنے کا آلہ۔

تَہْدِید جمع تہدیدات: دھمکی، ڈرانا، چشم نمائی، دہشت پیدا کرنا، تخویف۔تہدید بالتشہیر: استحصال، راز چھپانے کے لئے دباؤ ڈال کر رقم لینا، بلیک میل۔

تہدیدی: دھمکی آمیز۔تَہَدُّد: دھمکی، تخویف، ڈرانا، چشم نمائی۔مَهْدُود: تباہ شدہ، مسمار شدہ، تباہ کیا ہوا۔مَهْدُود القُوَی: کمزور کیا ہوا، تھکا ماندہ، مضمحل۔

مُهَدِّد: ڈرانے والا، دھمکی دینے والا (اسم وصفت)۔

مُهَدَّد: ڈرایا ہوا، دھمکایا ہوا۔

هدأ ا۔هَدَأَ یَهْدَأُ هَدْأً و هُدُوءً ا: ساکن ہونا، پرسکون ہونا۔ بالمکان: کسی جگہ اقامت کرنا۔کہا جاتا ہے: تساقطوا الی بلد کذا فهدأوا فیه: وہ فلاں شہر میں ایک ایک کر کے آئے اور اقامت کی ـــ فلانٌ: مرنا۔کہا جاتا ہے اَتانا فلانٌ و قد هدأت العینُ و الرِجلُ: وہ اس وقت آیا جب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ـــ الصبیَّ: بچہ کو سلانے کے لئے تھپکنا۔هَدَّأَ تَهْدِئَةً ہٗ: کو چپ کرانا، تسکین دینا۔اَهْدَأَ اِهْدَاءً ہٗ: کو تسکین دینا، چپ کرانا۔الصبیَّ: بچہ کو سلانے کے لئے تھپکنا۔ عرب کہتے ہیں لا اَهْدَأَهُ اللّٰهُ: خدا اس کو اس کی مصیبت میں چھوڑ دے۔الهُدْء و الهَدْء: رات کا ابتدائی حصہ۔کہا جاتا ہے اَتانا بعد هَدْءٍ من اللیل: وہ رات کے ابتدائی حصہ کے بعد آیا، وہ ہمارے پاس لوگوں کے سونے کے بعد آیا۔الهَدْأة: هدأ کا اسم مرّہ ـــ من اللیل: رات کا ابتدائی حصہ۔الهِدْأَة: اسم نوع۔کہا جاتا ہے ماله هِدأةُ لیلةٍ: اس کے پاس ایک رات کا گزارہ بھی نہیں۔الهَدَأَة: ایک قسم کی دوڑ۔کہا جاتا ہے هو اَهْدَأُ مِمَّا کان: وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔الهَدِیءُ من اللیل: رات کا ابتدائی حصہ۔الهدوء من اللیل: رات کا ابتدائی حصہ۔کہا جاتا ہے أتانا فلانٌ هُدُوءً ا: وہ ایک نیند لے کر آیا۔المَهْدَأ من اللیل: رات کا ابتدائی حصہ۔المَهْدَأة: حالت۔کہا جاتا ہے ترکتُه علی مُهَیْدِئَتِهِ: میں نے اسے اسی حالت میں چھوڑا جو پہلے تھی (یہ مَهْدَأَة کی تصغیر ہے)۔

۲۔ھَدِئَ یَهْدَأُ هَدَأً: کبڑا ہونا ـــ البعیرُ: بہت بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اونٹ کے کوہان کا چھوٹا ہونا۔اَهْدَأَ اِهْدَاءً الکبرُ او الضربُ فلاناً: بڑھاپے یا مار کا کسی کو کبڑا کر دینا۔اللّٰه مَنْکِبَهٗ: اللہ اس کو کبڑا کرے۔ ـــ الثوبَ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔الهَدَاءَة: دبلا گھوڑا۔الأَهْدَأُ: کبڑا۔منکبُ اهدأ: آگے کو جھکا ہوا کندھا۔رجلٌ اَهْدأ: کبڑا مرد۔امرأة اَهْدَأ: کبڑی عورت۔

۳۔الهَدْءُ: سیرت، خصلت۔

هَدَأَ ـهَدْأً و هُدُوءً: خاموش ہونا، ساکن ہونا، پرسکون ہونا، بے حس وحرکت ہونا، خاموش ہونا، گھٹ جانا، فرو ہونا، مدہم ہونا، کم ہونا، مدہم پڑنا، تھم جانا ـــ ب: (کسی جگہ) پر رکنا، آرام کرنا، میں رہنا، قیام کرنا، ٹھہرنا ـــ عن: کچھ کرنے سے رک جانا۔هَدَأَ رَوْعُهُ: مطمئن ہونا، خاطر جمع ہونا، جذبات پر قابو پائے ہونا۔هَدَّأَ ہ/ ہ/ من: کو تسکین دینا، تسلی دینا، خاموش کرنا، اطمینان دلانا، فرو کرنا، نرم کرنا، ٹھنڈا کرنا، طمانیت بخشنا، کی ڈھارس بندھانا، کو تسکین دینا، نرم کرنا، مطمئن کرنا، ہلکا کرنا، دھیما کرنا، اعتدال پر لانا۔هَدَّأَ اعصابَهُ: اعصاب کو تسکین دینا۔هَدَّأَ مِن روعِهِ: کے اندیشے دور کرنا، کے ذہن کو آرام دینا۔هَـدِئْ و عَلَیٰ: آرام سے، دھیرج سے، تحمل سے، پریشان نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، پرسکون رہو۔اَهْدَأَ بمعنی هَدَّأَ۔اَهْدَأَہ: بچہ کو لوری دے کر تھپک تھپک کر سلانا۔هَدْء: سکون، سکوت، ٹھہراؤ، خاموشی، قرار، اطمینان، امن، آسودگی، امان، طمانیت، سناٹا، گہری خاموشی۔هُدُوء: مندرجہ بالا معنے۔بِهُدُوءٍ: خاموشی سے، سکون سے، اطمینان سے، ٹھنڈے دل سے۔هَـادِئ: خاموش، پرسکون، کم آواز، مطمئن، پرامن، ساکن، آسودہ، پر اطمینان، بے حس وحرکت، چپ چاپ، چپ۔هادئُ القلب: مطمئن، پرسکون، ٹھنڈے دل سے، اطمینان سے، سکون سے، بے باک، راز دار، متیقن، استقلال کے ساتھ، یقین کیساتھ۔هادئ البال: مطمئن خاطر۔جمع۔جمعیت خاطر کے ساتھ، اطمینان سے، سکون دل سے۔المحیط الهادی: بحر الکاہل (the Pacific ocean)۔

هدب: هَدَبَ ـهَدْبًا الشیءَ: چیز کو کاٹنا ـــ الناقةَ: کو دوہنا ـــ الثمرةَ: پھل چننا۔هَدِبَ ـهَدَبًا ت العینُ: آنکھ کا لمبی پلکوں والا ہونا ـــ ت الشجرةُ: درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا، جو ارد گرد لٹکتی یا جھولتی ہوں۔هَدَّبَ الثمرةَ: پھل چننا ـــ الثوبَ: کپڑے کا پھندنا بنانا۔اَهْدَبَت الشجرةُ: درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا، جو چاروں طرف لٹکتی یا جھولتی ہوں۔تَهَدَّبَ السحابُ: بادل کا زمین کے قریب ہونا ـــ ت الاغصان: ٹہنیوں کا لٹکا ہوا ہونا۔اِهْتَدَبَ الثمرةَ: پھل چننا۔الهُدْب و الهُدُب واحدهُدْبَة و هُدُبَه جمع اَهْدَاب: پلک، کپڑے کا پھندنا، جھالر۔الهَدَب جمع اَهْدَاب: ارطی یا اس جیسے درختوں کی ٹہنیاں۔ درخت کے ہمیشہ رہنے والے پتے جیسے سرو کے پتے ـــ من النبات: گھاس جس کے پتے نہ ہوں، بے چوڑائی کا پتہ۔هَدَبُ الشجرة: درخت کی ٹہنیوں کی لمبائی اور لٹکنا۔الهَـدِب (ح): ثیر ـــ من العیون او الاشجار: لمبی پلکوں والی آنکھ، لمبی شاخوں والا درخت۔الهَدُب: کند ذہن، عاجز۔الهُدَّاب: کند ذہن ـــ واحدهُدَّابَة: سدا بہار پتے۔کہا جاتا ہے قَطَعَ هَدَبَ الشجرة و هُدَّابَها: اس نے درخت کی ٹہنیاں کاٹیں۔هُدَّاب النخل: کھجور کے درخت کے پتے ـــ الثوب: جھالر۔هُدْبِیَّةُ الاذناب او المُذنبات (ح): بے پر کے حشرات ارض، جانوروں کے بچے، مچھلی کے چھلکے۔الأَهْدَب م هَدْبَاء جمع هُدْبٌ: لمبی اور گھنی پلکوں والا۔شجر اهدب: لٹکتی ٹہنیوں والا درخت۔ نسرٌ اَهْدَبُ: لمبے پروں والا گدھ۔عینٌ هَدْبَاء: لمبی پلکوں والی آنکھ۔شجرة هَدْبَاء: لمبی اور لٹکی ہوئی شاخوں والا درخت۔اُذُنٌ هَدْبَاء: لٹکتا ڈھیلا کان۔ لِحیَةٌ هَدْبَاءُ: لٹکتی ہوئی داڑھی۔الهَیْدَب: بہت بالوں والا، عورت کا پستان ـــ من السحاب: زمین کے قریب لٹکا ہوا بادل ـــ من الرجال: کند ذہن، عاجز۔

هَدِبَ ـهَدَبًا: (آنکھ کا) لمبی پلکوں والا ہونا، (درخت کا) لمبی اور جھکی ہوئی شاخوں والا ہونا۔هَدَّبَ ہ: (لباس) کو جھالر لگانا، کے پلو بنانا، کو جھالر، حاشیہ یا پلو سے آراستہ کرنا۔هُدْب و هُدُب اسم جمع واحد هدبة جمع اَهْدَاب: پلکیں، جھالریں۔بِاَهداب: جھالروں سے آراستہ، جھالر لگا۔تَمَسَّكَ باَهدابه: کسی کا انتہائی جانثار ہونا، کسی کے اشارے پر چلنا، کسی کی مٹھی میں یا کسی کے قابو میں ہونا۔تَمَسَّكَ او تَعَلَّقَ باهداب الشیء: سے چپکنا، جڑا رہنا، لگا رہنا، چمٹنا، سے وفاداری کرنا۔اَخَذَ باهداب الشیء: پر توجہ دینا، میں مصروف ہونا، پر کامل توجہ کرنا، کی دھن میں لگا رہنا، کو سدھارنا، سنوارنا، تربیت دینا، کی زمین تیار کرنا، کو عمل میں لانا، کی مشق کرنا۔هَدِب: لمبی پلکوں والا۔أَهْدَب م هَدْبَاء: لمبی پلکوں والا۔هُدَّاب

(اسم جمع واحد هَدَابَة) جھالریں، باڈر، پلو، حاشیہ۔ مغزی کنارہ، سنجاف، کور۔

هدج: هَدَجَ - هَدْجًا و هَدَجَانًا و هُدَاجًا: بوڑھے کی چال چلنا۔ ــــ الظلیمُ: شترمرغ کا کانپتے ہوئے چلنا۔ ــــ هَدْجًا و هَدَجَةً ت الناقةُ: اونٹنی کا اپنے بچے سے پیار کرنا۔ ــــ ت القدرُ: ہانڈی کا اُبلنا۔ ــــ ت الریحُ: ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔ هَدَّجَ ت الناقةُ: اونٹنی کا بلند کوہان والی ہونا۔ تَهَدَّجَ الصوتُ: آواز لرزنا۔ ــــ ت الناقةُ: اونٹنی کا اپنے بچے پر شفقت کرنا۔ ــــ النوم علی فلان: کی مہربانیاں ظاہر کرنا۔ استَهْدَجَ: کانپتے ہوئے چلنا۔ الهَدَّاج: صیغہ مبالغہ، بوڑھے کی چال چلنے والا۔ ظَلیم هَدّاج: کانپتے ہوئے چلنے والا شترمرغ۔ فنا فذ هدّا جون حول بیوتهم: سیبیاں ان کے مکانوں کے گرد کانپتے ہوئے چلتی ہیں۔ قِدرٌ هَدُوجٌ: جلد ابلنے والی ہانڈی۔ الهَوْدَج جمع هَوَادِج: کجاوہ، ہودہ۔ المِهْدَاج: اپنے بچے سے پیار کرنے والی اونٹنی، سائیں سائیں کرنے والی ہوا۔ المُستَهْدِج (فا): جلد باز۔ المُستَهْدَج: مصدر: جلد بازی۔ (یہ مصدر میمی ہے)

۲۔ الهَدَجْدَج: بوڑھے کی چال چلنے والا، شترمرغ جو چلنے میں کانپتا ہے۔

ض هَدَجَ - هَدْجًا و هَدَجَانًا و هُدَاجًا: لڑکھڑا کے چلنا، گھسٹ کر چلنا، پیر رگڑ کر چلنا، ڈانواں ڈول، لڑکھڑاتے یا کانپتے ہوئے قدموں سے چلنا، لڑکھڑاتے ہوئے چلنا، لنگڑا کر چلنا۔ هَدَّجَ ہ: کسی چیز کو لرزانا، تھرانا۔ تَهَدَّجَ: کانپنا، لرزنا، تھرانا (آواز کا)۔ هَوْدَج جمع هَوَادِج: کجاوہ، ہودہ، پالکی، ڈولی۔

هدر: ا۔ هَدَرَ - هَدْرًا و هَدَرًا الدمُ وغیرہ: خون وغیرہ رائیگاں جانا۔ ــــ فلانٌ الدمَ وغیرہ: فلاں کا خون وغیرہ کو باطل کرنا۔ أَهْدَرَ دمَ فلان: فلاں شخص کا خون باطل کرنا اور مباح کرنا۔ تَهَادَرَ القومُ: ایک دوسرے کے خون کو مباح کرنا۔ اِهْدَوْدَرَ المطرُ: بارش کا زور سے برسنا۔ الهَادِر (فا) جمع هَدَرَة: رائیگاں۔ الهَادِرَة جمع هَوَادِر: هادر کا مؤنث۔ الهَدَر (مص): گرنے والا، رائیگاں۔ کہا جاتا ہے: ذهب دمهُ هَدَرًا: اُس کا خون رائیگاں گیا۔ ذهب مالهُ او سعیهُ هَدَرًا: اس کا مال یا کوشش رائیگاں گئی۔ الهدر جمع هِدَرَة: ست، نکما۔ کہا جاتا ہے: بنو فلان هَدَرَةٌ او هُدَرَة: فلاں قبیلہ والے نکمے ہیں۔ واحد و مؤنث بھی اسی طرح ہے۔ الهَدَر: ناکارہ، رائیگاں، ناکارہ لوگ۔ کہا جاتا ہے: هو جبانٌ هَدَرة: وہ بزدل اور ناکارہ شخص ہے۔

۲۔ هَدَرَ - هَدْرًا و تَهْدَارًا الحمامُ: کبوتر کا کوکو کرنا۔ ــــ الشرابُ: شراب کا جوش مارنا۔ ــــ ت جرّةُ النبیذ: مٹکے میں نبیذ کا جوش مارنا۔ ــــ الرعدُ: بادل گرجنا۔ ــــ النخلُ: کھجور کا شگوفہ نکلنا۔ ــــ هَدْرًا و هَدِیرًا البعیرُ: اونٹ کا بلبلانا۔ ــــ هُدُورًا و هَدِیرًا العشبُ: گھاس کا بہت لمبا ہونا۔ هَدَّرَ البعیرُ: اونٹ کا بڑبڑانا۔ الهادِر: وہ دودھ جس کا اوپر کا حصہ گاڑھا ہو اور نیچے کا حصہ پتلا۔ الهَادِرَة جمع هَوَادِر: بہت گھاس والی محدود زمین۔ الهَدَّار: مبالغہ کا صیغہ۔ کہا جاتا ہے: رَعْدٌ هَدَّار: بہت گرجنے والا بادل۔ الأَهْدَر م هَدْرَاء جمع هُدْر: پھولا ہوا۔ المَهْدَرَة: آگے کے چھوٹے دانت۔

۳۔ الهِدْرُجین (ل): ہائیڈروجن (ایک بہت ہلکی گیس کا نام ہے۔ انگریزی میں اسے (hydrogen) کہتے ہیں۔ اس کا کوئی رنگ یا بو نہیں ہوتی، جلنے کے قابل ہے، پانی ترکیب میں آکسیجن کے ساتھ شامل ہے۔ الهدروجین الثقیل او الدوتیرلوم: ہائیڈروجن کی ایک قسم جس کا ثقل عام ہائیڈروجن سے دوگنا ہوتا ہے آکسیجن سے مل کر ان سے بھاری پانی بنتا ہے جو ایٹمی تحقیقات میں استعمال ہوتا ہے۔

۴۔ الهَدَارِیس: مصائب۔

ض هَدَرَ - هَدْرًا و هَدِیرًا: (بادل کی گرج) کا زور سے گرجنا، گڑگڑانا، (سمندر کا) موجزن ہونا، متلاطم ہونا، چڑھنا (شیر کا) دھاڑنا، (گدھے/اونٹ کا) ڈھینچوں ڈھینچو کرنا/ بلبلانا: شور مچانا، غوغا کرنا، ہنگامہ برپا کرنا، غل مچانے والا ہونا، (آدمی کا) سخت خفا ہونا، آگ بگولا ہونا، طیش میں آنا، طوفان بپا کرنا۔ لمبی چوڑی ہانکنا، چیخنا، (غصہ میں) غرانا، بلبلے اٹھنا، ابلنا، کھولنا، جوش کھانا، ابلنے کے قریب ہونا۔ ــــ ب: کوئی بات بے تامل کہہ دینا ناگفتنی بات کہہ دینا۔ ــــ هَدْرًا و هَدَرًا: فضول ہونا، بیکار ہونا، لاحاصل ہونا، رائیگاں جانا۔ (مال کا یونہی یا بیکار خرچ ہونا)۔ (خون) کا رائیگاں جانا، یا بلاخوف عقوبت بہایا جانا۔ ــــ ہ: (کوشش، مال) کو یونہی یا بیکار خرچ کرنا، ضائع کرنا، گنوانا، (صحت) تباہ کرنا، (خون) کو بیکار بہانا یا بلاخوف عقوبت بہانا۔ أَهْدَرَ ہ: کو نا موجود سمجھنا، کو ناجائز سمجھنا، کو باطل کرنا، ناجائز قرار دینا، بے کار کرنا، بے اثر کرنا، کو کالعدم کرنا، کو تباہ کرنا، کو خاک میں ملا دینا، مات کرنا، کو نا کام بنا دینا۔ هَدْرًا: بیکار، یونہی، بے فائدہ، فضول، لاحاصل۔ ذَهَبَ هَدْرًا: یونہی گیا، بے کار گیا، رائیگاں گیا، فضول گیا، بے کار خرچ ہونا، ضائع ہونا۔ هُدْر: سقوط، گرنا، الٹ کر گرنا، بری طرح گرنا۔ هَدّار: چکر کھانے والا، تیزی سے جانے والا، گرجنے والا، دھاڑنے والا، سخت تیز متلاطم، موجزن (سمندر)، بند (dam)۔ هَدَّارَة: آبشار۔ هَدِیر: گرجنا، دھاڑنا، گرج، دھاڑ، آگ بگولہ طیش میں، زور سے چلنے والی، ہنگامہ، فساد، شور وغل۔ مُهْدَر: باطل، ناجائز، قانوناً بیکار، بے اثر، بے بنیاد، غیر صحیح، غیر مسلمہ، ناقص، بے کار، بے فائدہ، کالعدم، باطل۔

هدس: هَدَسَ فیه: پر غور کرنا (سریانی عوامی زبان میں)۔

هدش: هُدِشَ هَدْشًا الکلب فَانْهَدَشَ اِنْهِدَاشًا: کتے کا بھڑکایا جانا، جس پر اس کا بھڑک اٹھنا۔

هدغ: هَدَغَ - هَدْغًا ہُ: کو توڑنا۔ اِنْهَدَغَ: ٹوٹنا۔ ــــ الشیءُ: خشک ہونے کے بعد نرم ہونا۔ ــــ ت الرطبةُ: تازہ کھجور کا گر کر پھٹنا۔

هدف: ا۔ هَدَفَ - هُدُفًا الیه: کے پاس آنا، میں داخل ہونا۔ ــــ للخمسین: پچاس کے قریب ہونا۔ ــــ هَدَفًا الی الشیء: کی طرف جلدی جانا۔ ــــ الیه: کا قصد کرنا، کو اپنا ہدف بنانا۔ أَهْدَفَ للخمسین: پچاس کے قریب ہونا۔ ــــ علی التَلّ: ٹیلہ پر سے جھانکنا۔ ــــ الیه: کے پاس پناہ لینا۔ ــــ له الشیءُ: کو دکھائی دینا، کے قریب ہونا۔ ــــ منه: کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے: اَهْدَفَ لَکَ الصیدُ فارمه: شکار تیر کے سامنے اور قریب آ گیا ہے لہٰذا اُس پر فائر کرو۔ اِسْتَهْدَفَ لَهُ الشیءُ: کے لئے کھڑا ہونا۔ ــــ الشیءُ: بلند ہونا۔ سامنا کرنا۔ کہتے ہیں: من صنّفَ فقد استهدف: مصنف کو لوگوں کی باتوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ ــــ کفلُ الانسانِ او الحیوانِ: انسان یا جانور کے چوتڑ کا موٹا ہونا۔ الهَادِف (فا): مسافر۔ الهَادِفَة: جماعت، گروہ۔ الهِدْف: جسیم۔ الهَدَف جمع أَهْدَاف: ہر ایک بلند عمارت، ریت کا ٹیلہ، یا پہاڑ، نشانہ، بڑا آدمی۔ الهِدْفَة جمع هِدَف: لوگوں کی جماعت۔ مکانات جن میں لوگ کچھ دن کے لئے ٹھہریں پھر کوچ کر جائیں۔

۲۔ هَدَفَ - هَدْفًا: ست ہونا، کمزور ہونا۔ الهَدَف جمع أَهْدَاف: بوجھل بہت سونے والا، ناکارہ آدمی۔

ض هَدَفَ - هَدْفًا الی: کے پاس جانا، نزدیک جانا، کے

قریب ہونا، کا نشانہ یا شست باندھنا، کی تمنا یا آرزو کرنا۔ أَهْدَفَ إلى کے پاس جانا، کے نزدیک جانا، کے قریب ہونا، تَهَدَّفَ اکڑ کے چلنا، اترا کے چلنا۔ اِسْتَهْدَفَ ن إلى خطرہ کے لئے کھلا ہونا، کے خطرے میں ہونا۔ ـــ ل سے اثرپذیر ہونا، کیلئے سریع التاثر ہونا، حساس ہونا، زود اثر ہونا، سے جلد متاثر ہونے والا ہونا، کا فوراً اثر قبول کرنے والا ہونا۔ ـــ ہ کو اپنا مقصد یا ہدف بنانا، کی تمنا کرنا، کی آرزو کرنا، مقصد ہونا، کو پیش نظر رکھنا، کو ذہن میں رکھنا۔ هَدَف جمع أَهْدَاف نشانہ، ہدف، مقصد، مدعا، غرض، غایت، ارادہ، عزم، گول (کھیلوں میں)۔ جَعَلَهُ هَدَفًا ل کو کا نشانہ یا ہدف بنانا، کو کا مقصد بنانا، کو (خطرہ) میں ڈالنا۔ كان هدفًا ل کے خطرے میں ہونا، کے لئے کھلا ہونا۔ أَهْدَافٌ حَرْبِيَة جنگی نشانے، ہدف۔ هَدَّاف بڑا نشانہ باز، نشانہ باز۔ هَدَفَان: (مثنّی) نشانہ۔ مُسْتَهْدِف ل کے خطرہ میں، کے لئے کھلا۔

هدك: هَدَكَ ـ هَدْكًا البناءَ: عمارت کو ڈھانا۔ تَهَدَّكَ تَهَدُّكًا: بے وقوف بننا۔ ـــ عليه بالكلام: کو دھمکانا۔

هدل: ا۔ هَدَلَ ـ هَدْلاً الشيءَ: کو لٹکانا۔ هَدِلَ ـ هَدَلاً: ڈھیلا ہونا۔ ـــ البعيرُ: اونٹ کا زخم سے ڈھیلے ہونٹ والا ہونا۔ تَهَدَّلَ تِ الشفةُ: ہونٹ کا ڈھیلا ہونا۔ ـــ ت اغصانُ الشجرة او ثمرتها: درخت کی ٹہنیوں یا پھل کا لٹکنا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا لٹکنا۔ الهَادِل فا۔ بعيرٌ هَادِلٌ: لمبے ہونٹ والا اونٹ۔ جملٌ هَدِلٌ: لمبے ہونٹ والا اونٹ۔ الهُدَّال: لٹکی ہوئی شاخیں۔ ـــ او الدِبق (ن): ایک طفیلی پودا۔ الأَهْدَل م هَدْلاء جمع هُدْل: ڈھیلے لٹکے ہوئے ہونٹ والا۔ ـــ من السحاب: زمین کے قریب تک لٹکا ہوا بادل۔ مشفرٌ أَهْدَل: ڈھیلا ہونٹ۔ شفةٌ هدلاءُ: تھوڑی پر لوٹا ہوا ہونٹ۔ الهَدِيل: بہت بالوں والا آدمی، الجھے ہوئے بالوں والا، جو نہ تو کنگھی کرتا ہو نہ تیل ڈالتا ہو۔ رجلٌ هَدِيلٌ: بھاری آدمی۔

۲۔ هَدَلَ ـ هَدِيلاً الحمامُ او الغلامُ: کبوتر یا لڑکے کا آواز نکالنا۔ الهَدَالة: جماعت، گروہ۔ الهَدِيل: کبوتر کی آواز، کبوتر کا بچہ۔

ⓒ هَدَلَ ـ هَدِيلا: کبوتر کا کوکو کرنا۔ ـــ هَدْلاً ہ: کو لٹکانا، ہلکانا۔ هَدِلَ ـ هَدَلاً و تَهَدَّلَ: ڈھیلا لٹکنا، لٹکنا، ہلکنا، بہنا، (لباس) چوڑا اور ڈھیلا ہونا۔ اهْدَل م هَدْلاء جمع هُدْل: ڈھیلا لٹکنے والا، بہنے والا۔ مُهَدَّل: ڈھیلا ڈھیلا لٹکنے والا، بہنے والا۔

هدم: ا۔ هَدَمَ ـ هَدْمًا البناءَ: عمارت ڈھانا، کہا جاتا ہے: ضَرَبَهُ فَهَدَمَهُ: اس نے اسکی کمر توڑ ڈالی۔ ـــ الثوبَ: کپڑے میں پیوند لگانا۔ هُدِمَ الرجلُ في البحر: سمندر میں چکر آنا۔ هَدَّمَ البناءَ: عمارت ڈھانا۔ تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔ ـــ الثوبَ: کپڑے میں خوب پیوند لگانا۔ تَهَدَّمَ البناءُ: عمارت کا ڈھیرے ڈھیرے گرنا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: تَهَدَّمَ عليه غضبًا: اس نے اسے دھمکی دی۔ تَهَادَمَ القومُ: ایک دوسرے کے خون کو مباح کرنا۔ اِنْهَدَمَ البناءُ: عمارت کا ڈھے پڑنا۔ الهَادِم فا۔ هَادِمُ اللذّات: موت سے کنایہ۔ الهَدْم (مص) خون جس کا بدلہ نہ لیا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے: دمُهُ هَدْمٌ: اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ الهِدْم جمع أَهْدَام و هِدَم: بوسیدہ یا پیوند لگا کپڑا (کہا جاتا ہے: عليه هِدْمٌ او أهدامٌ: اس نے بوسیدہ یا پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔) پرانا موزہ، پیر فرتوت۔ الهَدَم: کنواں جس کے کنارے ٹوٹ ٹوٹ کر اس میں گر گئے ہوں، ہر ٹوٹ کر گرنے والی چیز (کہا جاتا ہے: انقضَّ هَدَمٌ من الحائط: گرنے والی دیوار ٹوٹ گئی) خون جو انتقام کے بغیر بہایا گیا ہو۔ (کہا جاتا ہے: دمُهُ هَدَمٌ: اس کا خون بغیر انتقام بہایا گیا)۔ (نیز کہا جاتا ہے: إنَّ حَفْرَكَ إلىَّ لَهَدَمٌ و إنَّ حبلكَ اليَّ لأنشوطة: یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ کسی سے کہنا ہو کہ تمہاری مدد بہت کم ہے۔) عرب لوگ معاہدہ اور مدد کے وقت کہا کرتے تھے۔ دَمِي دَمُكَ و هَدَمِي هدمُكَ: اگر کسی نے مجھے قتل کیا تو تم میرے خون کا بدلہ طلب کرو گے اور اگر میری عزت پامال کی گئی تو سمجھو کہ تمہاری عزت پر حرف آیا۔ شهيد الهَدَم: کنویں میں گر کر مرنے والا یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا۔ الهَدِم: بے وقوف مخنث۔ الهَدْمَة: هدم کا اسم مرۃ، ہلکی بارش، ریوڑ کا ایک حصہ۔ الهِدْمَة جمع هِدَم: بوسیدہ کپڑا۔ الهُدَام: سمندر میں سر کا چکرانا، بحری جہاز میں جی کا متلانا۔ الهَدِيم: پہلے سال کے پودوں کا بقیہ۔ ارضٌ مَهْدُومَة: زمین جہاں ہلکی بارش ہوئی ہو۔ خُفٌّ مُهَدَّم: بوسیدہ پیوند لگا موزہ۔ عجوزٌ مُتَهَدِّمَة: بہت بوڑھی فرتوت عورت۔

۲۔ المُهَدَّم و المَهْدُوم و المَهْدُومَة: جما ہوا دودھ، کھٹا دودھ۔

۳۔ هَدْمَلَ الرجلُ: کپڑے پھاڑنا۔ الهِدْمِل: بوسیدہ پرانا کپڑا، پرانا دور ضخیم۔ الهِدْمِل: پرانا کپڑا۔ الهِدْمَلَة: پرانا زمانہ۔

۴۔ الهُدْمُل: بہت بالوں والا۔ الهَدْمَل: بلند ٹیلا۔ الهَدْمَلَة: ریگستانی زمین جس میں بہت درخت ہوں، لوگوں کی جماعت۔

ⓒ هَدَمَ ـ هَدْمًا ہ: کو پھاڑنا، گرانا، ڈھانا، مسمار کرنا، تباہ کرنا۔ هَدَّمَ ہ: بمعنی هَدَمَ ہ نیز هَدَّمَ ہ: کو بھک سے اڑانا۔ تَهَدَّمَ: پھٹنا، ڈھینا، گرنا، مسمار ہونا، تباہ ہونا، کا نام ونشان مٹنا، حرف غلط کی طرح مٹنا، ٹوٹا پھوٹا ہونا، شکستہ ہونا، گرنا، ڈھے جانا، گر پڑنا۔ اِنْهَدَمَ بمعنی تَهَدَّمَ۔ هَدْم: گرانا، ڈھانا، مسمار کرنا (عمارت کی) مسماری، تباہی۔ هِدْم جمع أَهْدَام و هِدَم: پرانا، بوسیدہ کپڑا۔ هُدُوم: کپڑے، لباس۔ هَدَّام: تباہ کن۔ هُدَام: سمندر میں سفر کے دوران متلی، قے۔ (Sea sikness)، تَهْدِيم: تباہ کرنا، گرانا، مسماری، تباہی، فنا، انہدام، ہلاکت۔ تَهَدُّم: گرنا، ڈھینا، مسمار ہونا، مسماری۔ هَادِم: کچلنے والا، تباہ کرنے والا، نیست و نابود کرنے والا، تباہ کن، تباہ کرنے والا، گرانے والا۔ مَهْدُوم: گرایا ہوا، تباہ کیا ہوا، برباد کیا ہوا، توڑا پھوڑا ہوا۔ مُهَدَّم و مُتَهَدِّم: توڑا پھوڑا ہوا، گرایا ہوا، مسمار کیا ہوا، تباہ کیا ہوا، برباد کیا ہوا، کھنڈر شدہ، گرنے یا ٹوٹنے کے قریب، ٹوٹا پھوٹا، خراب، خستہ، بری حالت میں۔ مُسْتَهْدِم: شکستہ، ٹوٹا پھوٹا، گرنے کے قریب (دیوار)۔

هدن: ا۔ هَدَنَ ـ هُدُونًا: آرام پانا، بزدل ہونا، ڈھیلا ہونا۔ ـــ هَدْنًا الرجلَ: کو جھوٹے وعدے وغیرہ سے تسلی دینا۔ ـــ الصبيَّ: بچہ کو خوش کرنا۔ ـــ الشيءَ: کو دفن کرنا۔ ـــ فلانًا: کو قتل کرنا۔ هُدِنَ عنك فلانٌ: کسی کا تھوڑی سی چیز پا کر تم سے راضی ہو جانا۔ هَدَّنَ ہ: کو تسکین دینا، تسلی دینا۔ کہا جاتا ہے: هدّنوه بالقول حتى هدن: انہوں نے اس کو باتوں سے تسلی دی یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ ـــ الصبيَّ: بچہ کو خوش کرنا۔ کہا جاتا ہے: هَدَّنَت المرأة صبيها بكلامها لينام: عورت نے بچے کو باتوں سے خوش کر دیا تا کہ وہ سو جائے۔ هَادَنَ مُهَادَنَةً ہ: سے صلح کرنا۔ أَهْدَنَ الخيلَ: گھوڑے کو دبلا کرنا۔ تَهَادَنَ الامرُ: کسی امر کا درست ہونا۔ ـــ القومُ: باہم صلح کرنا۔ اِنْهَدَنَ الرجلُ عن عزمه: اپنے ارادہ میں سست ہونا۔ الهِدْن: زرخیزی، ثمرآوری، بارآوری۔ الهَدِن: ڈھیلا۔ الهَدْنَة: هدن کا اسم مرہ، تھوڑی ہلکی بارش۔ الهُدْنَة جمع هُدَن: مصالحت، آرام و سکون، صلح کی شرائط طے کرنے تک جنگ بندی۔ الهِدَانَة: جنگ

کے بعد مصالحت۔ الهُدُون: سکون، صلح۔ المَهْدَنَة: سکون آرام۔ المَهْدُون (مفع): بہت سونے والا جو نماز نہ پڑھے اور نہ صبح کی حاجت کو جائے، وہ کند ذہن جس کو بات چیت خوش نہ کر سکے۔

۲۔ الهِدَان جمع هُدُون: احمق، اکھڑ، جنگ میں ۔ سست

○ هَدَنَ ۔هُدُونًا: خاموش یا پرسکون ہونا یا ہو جانا، خاموشی اختیار کرنا، تسلی یا تسکین پانا۔ هَادَنَ ہ: سے عارضی صلح کرنا۔ هُدْنَة جمع هُدنات: خاموشی، سکون، آسودگی، اطمینان، امن، وقفہ، مہلت، التواء، موقوفی، خاتمہ، عارضی صلح، جنگ بندی، التوائے جنگ۔ هِدَانَة: عارضی صلح، جنگ بندی، التوائے جنگ، امن۔ هُدُون: خاموشی، سکون، آسودگی، اطمینان۔ مُهَادَنَة: عارضی صلح کا تصفیہ، عارضی صلح کی بات چیت، مذاکرات۔

هدی: ۱۔ هَدَی يَهْدِي هُدًی و هَدْيًا و هِدْيَةً و هِدَايَةً ہ: کی راہنمائی کرنا۔ (کہا جاتا ہے: هداهُ الطريقَ و هداه إلى الطريق و للطريق: اس نے اُسے راستہ بتایا، آگاہ کیا)۔ ہ اللّٰهُ الى الايمان او للايمان: کو اللہ تعالیٰ کا ایمان کی طرف راہنمائی کرنا۔ ۔۔ الرجُلُ: ہدایت پانا۔ هداءَ فلانًا: کے آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے: جاءت الخيلُ يهديها فرسٌ أشقَرُ: گھوڑے اس طرح آئے کہ ان کے آگے ایک بھورے بالوں والا گھوڑا تھا۔ هَادَى مُهَادَاةً و هِداءً فلانًا: کو چلانا، ہانکنا۔ کہا جاتا ہے: جاء فلانٌ يهادى بين اثنين: وہ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لیتا ہوا آیا۔ تهدّى تهدّيًا: ہدایت پانا۔ تهادى تهاديًا الرجلُ: لڑکھڑاتے ہوئے چلنا۔ کہا جاتا ہے: جاء يتهادى بين اثنين: وہ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لیتا ہوا آیا۔ اِهْتَدَى اِهْتِدَاءً: ہدایت پانا۔ (کہا جاتا ہے: اهتدى إلى الطريق واهتدى الطريقَ إلى مكان كذا: اس نے فلاں جگہ جانے کے راستے کو جان لیا۔) ۔ الرجُلُ: ہدایت طلب کرنا۔ ۔۔ الفرسُ الخيلَ: گھوڑے کا دوسرے (پہلے) گھوڑوں میں شامل ہونا۔ اِسْتَهْدَى اِسْتِهْدَاءً: ہدایت طلب کرنا۔ الهَادِي جمع هادُون و هُدَاة (فا) و ۔۔ جمع الهَوَادِي: لاٹھی، آگے رہنے والا، گردن، نیزے یا تیر کا پھل۔ ۔ (ح): شیر۔ هَوَادِي الليل: رات کا آغاز۔ هَوادِي الإبل: آگے آگے چلنے والا اونٹ۔ الهَادِيَة جمع هَادِيات و هَوَادٍ: هادی کا مؤنث، لاٹھی، پانی میں ابھری ہوئی چٹان، گردن۔ کہا جاتا ہے: اقبلت هاديات الخيل و هواديها آگے آگے چلنے والے گھوڑے آئے۔ الهَدْي (مص): طریقہ، سیرت۔ کہا جاتا ہے: ما أحسنَ هديَهُ: اس کی سیرت کتنی اچھی ہے۔ هدى هديَه: وہ اس کی سیرت پر چلا۔ جئتُه بعد هَدْءٍ من الليل: میں رات کا ایک پہر گئے اس کے پاس آیا۔ الهُدَى: رہنمائی، بیان، دلالت، ہدایت (مونث ہے، مذکر بھی استعمال ہوتا ہے)۔ (کہا جاتا ہے: هو على الهُدَى: وہ ہدایت پر ہے۔)، دن۔ الهِدْيَة جمع هِدًى: طریقہ، سیرت، کہا جاتا ہے: ما أحسنَ هِديتَهُ: اس کی سیرت کتنی اچھی ہے۔ الهِدْيَة: هدی کا اسم نوع۔ و ۔۔ جمع هُدًى: طریقہ، سیرت۔ کہا جاتا ہے: ما أحسنَ هِديتَهُ: اس کی سیرت کتنی اچھی ہے۔ خُذ في هِدْيتِك: جو بات تو کر رہا تھا یا جو کام تو کر رہا تھا، اسے کرتا رہ۔ ضلّ هِدْيتَهُ: وہ جو چاہتا تھا اس سے بھٹک گیا۔ هِدْيَةُ الامر (بتثليث الهاء) طریق کار۔ نظرَ فلانٌ هِدْيةَ أمرِه: فلاں نے اپنے طریقہ کار پر غور کیا۔ رجُلٌ هِداءٌ: کمزور، بے وقوف آدمی۔ الهِدَايَة (مص): رہنمائی۔ الهَدُوُّ: رہنما۔ کہا جاتا ہے: رجل هَدُوٌّ: رہنما مرد۔ الحمامُ الهَادِي: نامہ بر کبوتر۔ المَهْدِيّ (مفع): وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ حق کی طرف راہنمائی کرے، ہدایت یافتہ۔ المُهاداة: باہمی مصالحت۔

۲۔ هَدَى يَهْدِي هِداءً العروسَ إلى بعلها: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔ هَدَّى تَهْدِيَةً الهديّةَ لفلان و اليه: کو تحفہ دینا۔ ۔ العروسَ الى بعلها: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔ ۔۔ الشيءَ: کو جدا جدا کرنا۔ هَادَى مُهَادَاةً و هِداءً ہ: ایک دوسرے کو تحفہ بھیجنا۔ ۔۔ فلانٌ فلانًا: اپنا اپنا کھانا لا کر ایک جگہ مل بیٹھ کر کھانا۔ أهْدَى إهداءً العروسَ إلى بعلها: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔ ۔ الهَدْيَ إلى الحَرَم: ہدی کا جانور حرم بھیجنا۔ ۔۔ لفلان (و إلى فلان كذا): کو تکریم کیلئے تحفہ بھیجنا۔ ۔۔ الشيءَ: کو جدا جدا کرنا۔ تَهَادَى تَهَادِيًا القومُ: ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجنا۔ کہا جاتا ہے: هذا شيءٌ يُتهادى: یہ چیز وہ ہے جسے لوگ ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں۔ اِهْتَدَى اهتداءً العروسَ إلى بعلها: دلہن کو اس کے شوہر کے پاس بھیجنا۔ اِسْتَهْدَى اِسْتِهْداءً الشيءَ: چیز کو بطور ہدیہ طلب کرنا۔ الهَدْيُ واحد هَدْيَة: مکہ معظمہ بھیجی جانے والی قربانی (کا جانور)، صاحب عزت۔ الهَدِيّ: دلہن، حرم کو بھیجی جانے والی قربانی (کا جانور)۔ اسیر، قیدی، صاحب عزت۔ الهَدِيَّة جمع هَدَايَا و هَدَاوِي و هَدَاوٍ: الهَدِيّ کا مونث، دلہن، تحفہ۔ الهَدْيَا: مثل۔ کہا جاتا ہے: لك عندي هَدْيَاها: میرے پاس تمہارے لئے اس جیسی چیز ہے۔ المِهْدَاء: ہدیہ بھیجنے کا عادی۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ مِهْداء و امرأة مِهْداء: تحفہ بھیجنے کا عادی مرد یا عورت۔ المِهْدَى: وہ برتن جس میں ہدیہ بھیجا جائے مثلاً تھالی طبق وغیرہ۔ المُهْداة و المَهْدِيَّة: دلہن جو شوہر کے پاس بھیجی گئی ہو۔

○ هَدَى ۔هَدْيًا و هُدًى و هِدَايَةً ہ: کو سیدھے راستے پر لیجانا۔ ۔ ہ ہ: کو راستہ دکھانا۔ کی رہبری کرنا۔ ۔۔ ہ إلى: کی تک رہبری کرنا، قیادت کرنا، کو کا راستہ دکھانا۔ ۔۔ ہ: کو سیدھے راستہ پر لیجانا۔ ۔۔ ہ: کو فراہم کرنا، مہیا کرنا، لانا، بہم پہنچانا، حاصل کرنا۔ ۔۔ هداءً ها إلى: دلہن کو دولہا کے پاس لانا، لیجانا۔ هَادَى ہُ: کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرنا۔ أهْدَى ها إلى: دلہن کو دولہا کے پاس لانا، لیجانا۔ ۔۔ ہ ل/الى: کو کوئی چیز بطور تحفہ دینا، کو کا تحفہ دینا۔ ۔ ل/الى ہ: کو کا تحفہ بنانا۔ ۔ ہ ل/الى: کو کی نذر کرنا، کو سے منسوب کرنا، کا سے انتساب کرنا۔ ۔۔ ہ (تمغہ وغیرہ) عطا کرنا، عنایت کرنا، مرحمت کرنا۔ ۔۔ ہ ہ: کو کچھ بھیجنا، ارسال کرنا۔ تَهَدَّى: صحیح راہ پر ہونا۔ ۔ الى: تک پہنچنا۔ تهادى: ایک دوسرے کو تحفے دینا، تحائف کا تبادلہ کرنا۔ ۔۔ ہ: ایک دوسرے کے درمیان کسی چیز کا تبادلہ کرنا۔ ۔ التحية: تہنیات کا تبادلہ کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، تسلیمات عرض کرنا۔ ۔۔ ہ: کی رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، کو لیجانا، لانا۔ ۔۔ : چلتے ہوئے جھومنا یا لہرانا، آگے پیچھے ہلنا، جھولنے یا لہرانے کے انداز سے چلنا، لمبے لمبے قدم اٹھانا، آگے کی طرف حرکت کرنا، آگے بڑھنا۔ ۔ إلى: تک پہنچنا، میں گھسنا، کے پاس گروہ کی شکل میں جانا، کے گرد جمع ہونا۔ اِهْتَدَى: سیدھے راستہ پر ہونا۔ ۔ إلى/ل: تک لیجایا جانا، کا راستہ پانا، کو پانا، کا سراغ یا کھوج لگانا، کو دریافت کرنا، منکشف کرنا، کسی چیز تک اتفاقاً پہنچ جانا ۔۔ الى/ل: (کوئی خیال وغیرہ) سوجھنا، ہاتھ لگنا، سے آگاہ ہونا، کے متعلق سوچنا، تک پہنچنا۔ ۔ إلى: سچے دین تک راستہ پانا، من: برائی سے دور۔ ۔۔ بـ: کسی سے راہنمائی کیا جانا، کسی شخص یا چیز کو مثال یا نمونہ کے طور پر لینا، کو اپنے لئے مشعل راہ بنانا، کے نقش قدم پر چلنا۔ اِسْتَهْدَى: صحیح رہنمائی طلب کرنا، خداوندی ہدایت کی دعا کرنا، صراط مستقیم تلاش کرنا، مانگنا، چاہنا۔ هُدًى: رہنمائی، رہبری، ہدایت: طریقہ، سڑک، ارشاد، انداز،

اسلوب، راستہ۔ هُــدًی: صحیح رہنمائی (مذہبی مفہوم میں) رہنمائی، رہبری، سیدھا راستہ، سچا دین۔ کــان علی هُدی: صراط مستقیم پر ہونا، دین حق قبول کرنا، اختیار کرنا۔ علی غیرِ هُدی: بلا مقصد، یونہی، بے سوچے سمجھے۔ سار علی غیرِ هُدی: بے مقصد، اِدھر اُدھر پھرنا۔ هَدْیَة و هِدْیَة: طرزِ عمل (کا طریقہ)، طریق کار، پالیسی، راستہ، سمت، رخ، طریقہ، انداز، اسلوب۔ هَدِیَّة جمع هَــدَایـا: تحفہ، عطیہ، ہدیہ، نذر، نذرانہ، قربانی۔ هِــدَایَة: رہنمائی، رہبری۔ عــلــی غیــر هــدایة: الٰہی رہنمائی کے بغیر، بلا مقصد، یونہی، بے سوچے سمجھے۔ أهْــدَی: بہتر رہنمائی یا رہبری کیا گیا، صحیح تر، مناسب تر، بہتر۔ إهــداء: پیشکش، عطیہ، گرانٹ، منظور کرنا، انعام، دان، بخشش، نوازش، انتساب، نذر، وقف تہدیہ، کتاب معنون کرنے کا مقدمہ)۔ هَادٍ جمع هَــادُون و هُدَاة: رہنمائی کرنے والا، رہبری کرنے والا، راہنما، راہبر، پیش رو، راستہ دکھانے والا۔ مَهْــدِیّ: صحیح راہنمائی کیا ہوا۔ مُهْــتَدٍ: صحیح راہنمائی کیا ہوا۔

هذ: ا۔ هَــذَّ ـ هَــذًّا و هَــذَذًا و هُــذَاذَ ةً: کو کاٹنا، یا کو جلدی کاٹنا۔ ـ الحدیثَ: بات بیان کرنا۔ ـ به: کا عادی ہونا، کی لت لگ جانا۔ اِهْتَذَذْتُ الشیءَ: میں نے چیز کو جلد کاٹا۔ الهِــذّ: بہت کاٹنے والا۔ اِزْمِیل هَــذٌّ: تیز اور کاٹ دار چھینی، جب کسی کو کسی کام سے روکیں تو کہتے ہیں: هَــذَاذَیْكَ ـــــ الهَذَاذ: بہت کاٹنے والا۔ جــمــل هَــذَّاذٌ: آگے بڑھ کر چلنے والا اونٹ۔ شفرة هذاذة: کاٹنے والا چاقو۔

۲۔ الهَــذْهَاذ و الهُذاهِذ: تیز رفتار۔ ـــ من السیوف: قاطع تلوار۔ قَرَبٌ هَذْهاذ: پانی تک رات کو جانے کا دور اور دشوار سفر۔ الهَــذَاهِذ: وہ لوگ جو ہر شخص کو دیکھ کر کہیں کہ وہ ان میں سے ہے اور ان کا خادم ہے۔

هذأ: هَذَأ یَهْذَأ هَذْأ ةً: کو جلدی کاٹنا۔ ـ العدوَّ: دشمن کو ہلاک کر دینا۔ ـــ فلاناً بلسانه: کو زبان سے ایذا دینا، ناپسندیدہ باتیں سنانا۔ ـ الکلامَ: لغو باتیں کرنا۔ ـــ ت الابلُ: اونٹوں کا تکان سے گر پڑنا۔ هَذِئَ یَهْذَأُ هَذَأً من البرد: سردی سے ہلاک ہونا۔ تَهَذَّأ ت القرحةُ: زخم کا خراب ہو کر پھٹ جانا۔ الْهَذْأة: بیلچہ، کرچھا۔ سیف هَــذَّاءٌ و هُذَّاء: قاطع تلوار، کاٹنے والی تلوار۔

۲۔ هَــذَا: اسم اشارہ (ذا) اور تنبیہ (ها) سے مرکب لفظ۔ بمعنی یہ۔

☋ هَــذَا م هَــذِهِ و هَذِی جمع هــؤلاءُ تثنیــه هَذَانِ م هَــاتَــان: یہ۔ بِهــذَا: بذریعہ ہذا، اس کے ساتھ، مع ہذا۔ لِهَذَا: اس لئے، اس وجہ سے۔ مَعَ هذا: اس کے ساتھ، اس کے باوجود، پھر بھی، تاہم، بایں ہمہ۔ هــذا إلی أن: کے علاوہ، مزید برآں بھی۔ هــذا و: اس کے علاوہ، مزید برآں بھی، علاوہ ازیں، دوسری طرف۔ هذا و یُوْجَد: اس کے علاوہ، ...... بھی ہے۔

هذب: ا۔ هَذَبَ ـ هَذْبًا الشجرَ وغیرہ: درخت وغیرہ کاٹ کر اور صاف کر کے درست کرنا۔ ـــ النخلةَ: کھجور کے درخت کی چھال اُتارنا۔ هَــذَّبَ الشجر وغیرہ: درخت وغیرہ کاٹ اور صاف کر کے درست کرنا۔ ـ الشِعرَ: شعر کی اصلاح کرنا۔ ـ الرجُلَ: کو پاکیزہ اخلاق والا بنانا۔ تَهَــذَّبَ: درست اور پاکیزہ ہونا، شائستہ اخلاق ہونا۔ ـــ الرجُلُ: مہذب ہونا۔ الهَذَب: صفائی، خلوص۔ الــمُهَذَّب (مفع): پاکیزہ اخلاق والا، عیبوں سے پاک وصاف۔ کــلامٌ مُهَذَّبٌ او شِــعرٌ مُهَذَّب: کلام یا شعر جس کی غلطیاں نکال دی گئی ہوں۔

۲۔ هَذَبَ ـ هَذْبًا الشیُ: بہنا۔ ـــ هَذْبًا و هَذَابَةً: جلدی کرنا۔ هَذَّبَ: جلدی کرنا۔ هَــاذَبَ مُهَــاذَبَةً: جلدی کرنا۔ أهْذَبَ: جلدی کرنا۔ ـ ت الســحابةُ ماءَ ها: بادل کا جلدی سے پانی بہانا۔ فــرسٌ هَذِب: تیز رفتار گھوڑا۔ ابــلٌ مَهَــاذِیبُ (واحد مِهْذاب: تیز رفتار اونٹ۔ فــرسٌ او طــائرٌ مُهَــذَّبٌ: تیز رفتار گھوڑا یا پرندہ۔

۳۔ هَذَبَ ـ هَذْبًا و هَذَابَةً القومُ: قوم کا بہت شور مچانا۔

☋ هَــذَبَ ـ هَــذْبًــا ہ: کو تراشنا، چھانٹنا، حشو زوائد سے پاک کرنا، کاٹ چھانٹ کر درست کرنا، سنوارنا، آراستہ کرنا، کو صاف کرنا، پاک کرنا، ہموار کرنا، کو چمکانا، مہذب بنانا، شائستہ کرنا، درست کرنا۔ هَــذَّب بمعنی هَذَبَ: تیز هَذَّبَ ہ: کو سدھارنا، بہتر کرنا، کی اصلاح کرنا، کو ترقی دینا، کو صاف کرنا، مصفا کرنا، نکھارنا، جلا دینا، چمکانا، کو درست کرنا، ٹھیک کرنا، کی اصلاح کرنا، ترمیم کرنا، کی خرابی یا غلطی دور کرنا، کی جانچ پڑتال کر کے اصلاح کرنا، کی تصحیح کرنا، پر دوبارہ غور کرنا، کو جانچنا، کا جائزہ لینا، کی تنقیح کرنا۔ ـــ ہ: بچہ کی تربیت کرنا، کسی کو تعلیم دینا، سکھانا پڑھانا، آگاہ کرنا۔ تَهَــذَّب هَذَّب کا فعل مجہول معنی کے لحاظ سے۔ تَهْذِیب: پاکیزگی، شستگی، قابل اعتراض باتوں سے کتاب کی صفائی، سدھار، درستی، ترمیم، تصحیح، اصلاح، تلافی، نظر ثانی، اصلاح مکرر، تربیت، تعلیم، پرورش، تہذیب، ترقی، آرائش۔ تهذیبی: تعلیم کا، تعلیم سے متعلق، تعلیمی، سبق آموز، مصلحانہ، پر از معلومات، نصیحت آمیز، ہوش افزا، پند آمیز، عبرت خیز۔ تهــذّب: تربیت، تعلیم، تمیز، تہذیب، شائستگی۔ مُهَــذِّب: استاد، معلم۔ مُهَــذَّب: باتہذیب، اچھی تربیت والا، شائستہ، بااخلاق، مہذب، تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ، باتمیز، باسلیقہ، خلیق، خوش اخلاق، متواضع۔ مُتَهَذِّب: بمعنی مُهَذَّب۔

هذر: ا۔ هَذَرَ ـ هَذْراً و تَهْذَاراً الرجُلُ فی کلامه: بکواس کرنا۔ هَذِرَ ـ هَذَراً کــلامُــهُ: کلام کا بیہودہ ہونا، باطل ہونا۔ أهْــذَرَ فی مــنطِقِهِ وفی کلامِهِ: بکواس کرنا۔ الهَــذَر (مــص): بکواس، بیہودہ گفتگو۔ رجُلٌ هَــذِرٌ و هَــذُرٌ و هُذَرَةٌ و هُذَرَةٌ و هَذَّارٌ و هَیْذَرٌ و هَیْذَارَةٌ و مِهْذَرٌ و مِهْذَرَةٌ: بکواس کرنے والا، ہذیان بکنے والا، بیہودہ گفتگو کرنے والا۔ امــرأةٌ هَــذِرةٌ و هَیْذَرَةٌ: بکواس کرنے والی عورت۔ رجُلٌ هِــذْرِیَــانٌ: بکواس کرنے والا مرد، جلدی بولنے والا، چست۔ رجُلٌ مِهْذَارٌ: بکواس کرنے والا مرد، بیہودہ گفتگو کرنے والا۔ امــرأةٌ مِهْذَارٌ: بکواس کرنے والی عورت۔

۲۔ هَذَرَ ـ هَذْراً الیومُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ یومٌ هَاذِر: سخت گرم دن۔

۳۔ هَــذْرَبَ: تیزی سے گفتگو کرنا۔ الهُــذْرُبَــانُ: جلدی بولنے والا، چست۔ الهُذَیْرِبَی: عادت۔

۴۔ هَــذْرَفَ: جلدی کرنا۔ الهُذْرُوف جمع هذاریف: تیز رفتار۔

۵۔ هَــذْرَمَ هَذْرَمَةً: زیادہ بولنا، جلدی جلدی پڑھنا یا بولنا۔ ـ الرجُلُ فی کلامه: کلام میں گڑبڑ کرنا۔ الهَذْرَمَة (مــص): تیز رفتاری جلدی جلدی چلنا۔ الهِــذْرام: بہت باتونی۔ رجلٌ هِذْرام: بہت باتونی مرد۔ الهُذارم و الهُذارِمة: جلدی جلدی پڑھنے یا بولنے والا، بہت باتونی۔ امرأةٌ هَذْرَمی الصَخَب: بہت شور و شر والی عورت۔

☋ هَذَرَ ـ هَذْرًا: بک بک کرنا، بچوں کی طرح باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، بکنا، یاوہ گوئی کرنا، بیہودہ گوئی کرنا۔ ـــ ب: کو بے تامل کہہ دینا، پھوٹ پڑنا، بک دینا، یونہی بول اٹھنا، بے سوچے سمجھے کہہ دینا۔ هَذَّرَ: مذاق کرنا، دل لگی کرنا، چھیڑنا، فقرہ کسنا، طعن کرنا۔ هَــذْر: طفلانہ گفتگو، بکواس یاوہ گوئی، بے کار بات، ناکارہ گفتگو، تمسخر، تضحیک، طعنہ زنی، مذاق، لاحاصل کلام، چڑانا، مضحکہ اڑانا، طنز۔ هَــذِر: بک بک کرنے والا، بچوں کی طرح باتیں کرنے والا، بکواسی، گپی، باتونی۔

هَذرَمَ: بک بک کرنا، بکنا، بچے کی طرح بولنا، بیہودہ بکنا، مہمل بکنا، بچوں کی طرح باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، یاوہ گوئی کرنا، بے تکے پن سے کہنا۔

هذف: هَذَفَ-هُذُوفًا: جلدی کرنا۔ رجلٌ هَذِفٌ و هَذَّافٌ و مُهْذِفٌ: جلدی کرنے والا تیز و چست۔

هذل: ا۔ أَهْذَلَ: کہا جاتا ہے: أَهْذَبَ فی مشیه و أَهْذَلَ: وہ تیز چلا۔ الهَاذِل: رات کا درمیان۔ الهُذلُول جمع هَذَالِیل: ہلکا پھلکا آدمی، یا تیر یا بھیڑیا۔ لمبا سخت بدن کا گھوڑا، چھوٹا ٹیلہ، پانی کی چھوٹی ندی، باریک ریت، آفت، رات کا شروع یا بقیہ، پتلا بادل۔

۲۔ الهُذلُوغ: موٹے ہونٹ والا۔ الهُذلُوغة بدشکل۔

۳۔ هَذلَمَ: تیز چلنا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔

☜ هُذلُول جمع هَذَالِیل: بلندی، ارتفاع، پہاڑی، ندی، چھوٹا چشمہ۔ خط هذلولی: شکل ہذلولی، قطعہ ہذلولی (hyperbola)۔

هذم: ا۔ هَذَمَ-هَذمًا الشیءَ: کو جلدی کاٹنا۔ ـــــ الرجُلُ: جلدی جلدی کھانا، صفت هَاذِمٌ۔ الهُذَام: بہادر، کاٹنے والی تلوار۔ سنانٌ هُذَامٌ: تیز بھالا۔ شفرةٌ هُذَمَة و هُذَامَةٌ: جلدی کاٹنے والا چاقو، پھل (تلوار وغیرہ کا) یا بلیڈ۔ سِکّین هَذُومٌ: جلدی کاٹنے والی چھری۔ المِهْذَم من السیوف: کاٹنے والی تلوار۔

۲۔ هَذمَلَ: چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔

هذو: هَذَا یَهْذُو هَذْوًا هُ بالسیف: کو تلوار سے کاٹنا۔ ـــــ فی الکلام: بیماری وغیرہ کی وجہ سے غیر معقول باتیں کرنا۔

هذی: هَذَی یَهْذِی هَذْیًا و هَذَیَانًا: بیماری وغیرہ کی وجہ سے غیر معقول باتیں کرنا، صفت: هَاذٍ۔ اسم: الهُذَاء۔ هَاذَی مُهَاذَاةً هُ: سے یا آپس میں بکواس کرنا۔ کہا جاتا ہے: قَعَدَ یهاذی أصحابَه: وہ بیٹھا ہوا ان کے ساتھ غیر معقول باتیں کر رہا تھا۔ أَهْذَی إِهْذَاءً اللحمَ: گوشت کو بہت گلانا۔ تَهَاذَی تَهَاذِیًا القومُ: گفتگو میں ہذیان کا استعمال کرنا۔ رجُلٌ هَذَّاءٌ و هَذَّاءَةٌ: بہت بکواسی۔

☜ هَذَی -هَذیًا و هَذَیَانًا: غیر معقول باتیں کرنا، بہکی بہکی باتیں کرنا، ہذیان بکنا، حواس باختہ ہونا، ہذیانی ہونا۔ هُذَاء: غیر معقول باتیں، ہذیان، ہذیان بکنا۔ هَذَیَان: بے معنی شور، بکواس یا بڑ بڑ، بکواس، بے سروپا باتیں، ہذیان بکنا، احمقانہ باتیں، ہذیان، پراگندہ دماغی بے وقوفی، حماقت، احمقانہ حرکت، پاگل پن، جنون، دیوانگی، خبط، حد درجہ جوش، دھن، من بسا خیال، وہم، خیال باطل، فریب نظر۔ هَاذٍ: ہذیانی، ہذیان میں مبتلا، بدحواس، دیوانہ۔

هرّ: ا۔ هَرَّ -هَرًّا و هَرِیرًا الشیءَ: کو ناپسند کرنا، کہا جاتا ہے: فلانٌ هَرَّهُ الناسُ: لوگ فلاں شخص کو دیکھنا اور اس سے معاملہ کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ ـ فی وجه السائل: سائل کے سامنے تیوری پر بل ڈالنا۔ ـ ت القوسُ: کمان سے آواز نکلنا۔ ـــــ هَرًّا الشوکُ: کانٹے کا خشک اور سخت ہونا۔ ـ هَرِیرًا الکلبُ: کتے کا ہلکی آواز میں بھونکنا۔ ـ البَردُ الکلبَ: سردی کا کتے کو بھونکانا۔ ـ الکلبُ الضیفَ: کتے کا مہمان پر بھونکنا۔ ـ هرًّا: بدخلق ہونا۔ هارَّ مُهَارَّةً هُ: کے سامنے تیوری چڑھانا، منہ بگاڑنا۔ اَهَرَّ الکلبَ: کتے کو بھونکانا۔ اسی سے مثال ہے: شرٌّ اَهَرَّ ذاناب: بڑے شر نے کتے کو بھونکایا۔ ـــــ بالغنم: بکریوں کو پانی پر بلانا یا گھاٹ پر لے جانا۔ الهَارُّ (فا): دانت نکالنے والا کتا۔ الهِرّ: ناپسندیدگی، نفرت، کراہت، اونٹ کے ہانکنے یا پانی پر بلانے کی آواز۔ ـ جمع هِرَرَة مادہ هِرَّة جمع هِرَرٌ (ح): بلا۔ بعض کا کہنا ہے کہ هِرّ کا اطلاق نر و مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ مونث پر ھاء داخل کرتے ہیں۔ مادہ کی تصغیر هُرَیرہ ہے۔ لا یعرف هِرًّا من بِرٍّ: اسے دوست دشمن کی تمیز نہیں۔ الهُرُّ (ح): شیر، بہت دودھ اور پانی۔ الهَرّ (مص): اونٹوں کو ڈانٹنے کی ایک قسم۔ اجد فی وجهه هِرَّةً و هَرِیرَةً: میں اس کے چہرہ میں کراہیت پاتا ہوں۔ الهَرَّار: مبالغہ کا صیغہ۔ کتا (دانت نکالنے والا)، هَلَكَ من لاهَرّار له: وہ شخص ہلاک ہوا جس کے دشمنوں کو اس سے دور رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ الهَرَّارانِ (فلك): دو ستارے النسر الواقع اور قلب العقرب۔ دسمبر اور جنوری۔ الهَرِیر (مص): کتے کی آواز (نباح سے کم)، غراہٹ۔ کہا جاتا ہے: أدبر غریرُهُ و اقبل هریرُهُ: یہ ضرب المثل اس شخص کے لئے ہے جو بوڑھا اور بدخلق ہو۔

۲۔ هَرَّ -هَرًّا بسلحه: لید کرنا، پاخانہ کرنا۔ الدواءُ سَلْحَهُ: دواء کا دست لانا، پاخانہ آور ہونا۔ ـ هُرًّا و هُرَارًا سَلْحُهُ: دستوں سے مر جانا۔ ـ تِ الابلُ: اونٹوں کا هُرار کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ الهُرار: اونٹ کی بیماری اسہال۔ الهَرُور: زمین پر گرے ہوئے انگور۔ المَهْرُور (مفع): هُرار (اسہال) کی بیماری میں مبتلا۔

۳۔ هَرهَرَ هَرهَرَةً ت الضأنُ: بھیڑ کا آواز نکالنا۔ ـــ الرجُلُ: بے فائدہ ہنسنا۔ ـــ الشیءَ: کو ہلانا۔ ـــ بالغنم او الابل: بکریوں یا اونٹوں کو پانی پر بلانا، گھاٹ پر لیجانا۔ ـــــ علی فلان: پر زیادتی کرنا، تعدی کرنا۔ ـــ و تَهَرهَرَت الریحُ: ہوا کا سائیں سائیں کرنا۔ الهَرهَرہ (مص): جنگ میں اونٹوں کی آوازوں کی نقل، بھیڑوں کی آواز۔ هَرهَرَةُ الأسد: شیر کی دھاڑ کی گونج۔ الهُرَاهِر جمع هَرَاهِر (ح): شیر، بہت پانی اور دودھ۔ الهَرهار: بہت پانی اور دودھ۔ (ح): شیر، بے ہودہ ہنسنے والا۔ الهَرهُور: بہت پانی اور دودھ، آواز دینے والا جاری پانی، ایک قسم کی کشتی۔ الهرهیر (ح): ایک قسم کی مچھلی۔ (ح): ایک خبیث قسم کا سانپ۔

۴۔ الهِرهِر: بوڑھی بکری۔ الهُرهُرَة: انگور کی بیل کی جڑ میں گرے ہوئے انگور۔ الهَرهَار: دبلا گوشت۔ الهُرهُور: گرے ہوئے انگور، بوڑھی بکری۔

☜ هَرَّ -هَرِیرًا: غرانا، ریں ریں کرنا، جھینکنا۔ هِرّ جمع هِرَرَة: بلا، بلی، جوان بلا، جوان بلی۔ هِرَّة جمع هِرَر: بلی۔ هَرِیر: غرانا، غراہٹ، بھونکنا، جھینکنا، ریں ریں، ریں ریں کرنا، پھنکارنا۔ هُرَیرَة: بلی کا بچہ۔

هرأ: ا۔ هَرَأَ-هَرأً یَهرَأُ هَرءًا فی منطقه: فحش اور بیہودہ کلام کرنا۔ أَهْرَأَ إِهْرَاءً الکلامَ و فی الکلام: بہت بے ہودہ کلام کرنا۔ الهُراء: بے ہودہ کلام، بے ترتیب گفتگو۔ ـــــ و الهُرَأ: بہت بولنے والا، بیہودہ بکنے والا۔ امرأةٌ هُرَاءَةٌ و هُرَأَةٌ: بہت بولنے والی، بیہودہ گو عورت۔

۲۔ هَرَأَ یَهرَأُ هَرءًا او هَرَاءَةً البردُ فلانًا: سردی کا کسی کو قریب بہلاکت کر دینا، یا ہلاک کر دینا۔ ـ تِ الریحُ: ہوا کی سردی کا شدید ہونا۔ ـ اللحمَ: گوشت کو بہت پکانا۔ هَرِئَ هَرءًا او هُرَاءًا او هُرُوءًا اللحمُ: گوشت کا بہت پکا ہوا ہونا۔ هُرِئَ ت المواشیُ: مویشیوں کا گرمی یا سردی سے مرنا۔ صفت: مَهْرُوءَةٌ۔ هَرَّأَ تَهْرِئَةً البردُ الماشیةَ: سردی کا مویشی کو نڈھال کر دینا۔ ـ اللحمَ: گوشت کو اس قدر گلانا کہ ہڈی چھوڑ دے۔ أَهْرَأَ إِهْرَاءً هُ البردُ: کو ہلاک کرنے یا ہلاکت کے قریب پہنچانے والی سردی پڑنا۔ ـــ فلانٌ فلانًا: کو قتل کرنا۔ ـــ اللحمَ: گوشت کو بہت گلانا۔ تَهَرَّأَت الماشیةُ: مویشی کا سردی سے نڈھال ہونا۔ کہا جاتا ہے: هَرَّأَ البردُ الماشیةَ فَتَهَرَّأَت: سردی نے مویشی کو نڈھال کر دیا تو وہ نڈھال ہو گیا۔ ـــــ اللحمُ: گوشت کا گل کر بکھرنا۔ تَهَرَّأَ الثوبُ: کپڑے کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور بوسیدہ ہونا۔ الهِرَاء: درخت خرما کا پودا۔ الهَرِئُ: پوری طرح گلا ہوا گوشت۔ الهَرِیئَة: هریٔ کا مونث: سخت سردی کا

وقت۔کہا جاتا ہے بعدہ قرَّةٌ لها هَرِينة: یہ ایک سردی ہے جس سے مویشیوں اور انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور موت واقع ہوتی ہے۔المُهْرَأ (مفع): پکا ہوا گوشت۔

۞ هَرَأَ۔هَرْأً ہ کو چیرنا، پھاڑنا، چاک کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پرخچے اڑانا، (لباس) کو خستہ کر دینا۔۔ ہ پر بہت اثر کرنا، کو نقصان پہنچانا، تھکا دینا، کو تکلیف پہنچانا۔۔ ہ (کھال۔جلد) میں سوزش پیدا کرنا، (ہوا کا) سخت تکلیف دہ حد تک سرد ہونا۔هَرَّأَ ہ: گوشت کو بہت زیادہ پکانا۔أهْرَأَ بمعنی هَرَّأَ۔تَهَرَّأَ: گوشت کا بہت پک جانا، چرنا، پھٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پرخچے اڑنا۔اِهْتَرَأَ: پھٹنا، چرنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ستیاناس ہو جانا، بوسیدہ ہونا، پھٹا پرانا ہونا، فرسودہ ہونا۔هُرَاء: بچوں کی سی باتیں، بک بک، ناکارہ گفتگو۔مُهَرَّی: بہت پکا ہوا، ابالنے میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا گوشت، پھٹا ہوا، چرا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوا، بوسیدہ، فرسودہ، پھٹا پرانا۔

هرب: ۱۔هَرَبَ۔هَرَبًا و هُرُوبًا و مَهْرَبًا و هَرَبَانًا: فرار ہونا، بھاگ جانا۔۔ فی مشیه: تیز چلنا۔۔ فی الارض: دور تک جانا۔۔ فی الأمر: کام میں سخت مشغول ہونا۔هَرَبَ۔هَرَبًا الرجُلُ: بوڑھا ہونا۔هَرَّبَ ہ: کو بھگا دینا۔۔ الاشیاءَ الممنوعةَ: ممنوعہ چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں سمگل کرنا۔اسم التهريب: غیر قانونی درآمد برآمد، سمگلنگ (smuggling)۔أهْرَبَ الرجُلُ: گھبرا کر یا بغیر گھبراہٹ کے بھاگنے کی کوشش کرنا، دور تک جانا۔۔ فلانٌ فلانًا: فلاں کا فلاں کو بھاگنے پر مجبور کرنا۔۔ ت الریحُ: ہوا کا مٹی اڑانا۔۔ الرجُلُ: کسی کام میں مشغول ہونا۔تَهَارَبُوا: ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھاگنا۔الهارِب فا: کہا جاتا ہے مالهُ هاربٌ ولا قاربٌ: نہ کوئی اس سے بھاگنے والا ہے نہ قریب آنے والا ہے۔یعنی وہ کچھ بھی نہیں۔یا نہ تو پانی سے نکلنے والا ہے اور نہ پانی لینے آنے والا۔مراد اس کے پاس کچھ نہیں۔هارِبُ الماء عند الزرّاعين: پانی کی نالی جو نہر سے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔المَهْرَب (مص): بھاگ کر جانے کی جگہ۔کہا جاتا ہے فلانٌ لنا مَهْرَبٌ: ہم سختی پر فلاں شخص کے پاس بھاگ کر چلے جاتے ہیں۔

۲۔الهَرْبَذَة: آہستہ چال۔الهَرابِذَة: واحد هِربِذ (فارسی): ہندوؤں کے بڑے لوگ یا ان کے پنڈت، آتش پرستوں کی آگ کے خادم۔

۳۔الهُرْبُع جمع هَرابِع: چست و چالاک چور یا بھیڑیا۔

۞ هَرَبَ۔هَرَبًا و هُرُوبًا و مَهْرَبًا و هَرَبَانًا إلی: کو بھاگنا، فرار ہونا۔۔ من: سے بچ نکلنا۔۔ مع: کے ساتھ بھاگ جانا، نکل جانا۔هَرَبَ: (فوجی یا بحری نوکری) چھوڑ کر بھاگ جانا۔هَرَّبَ ہ: کو فرار ہونے میں مدد دینا، کو فرار ہونے پر مجبور کرنا، کو بھگا دینا، فرار کرا دینا، (قیدی) کو آزاد کرنا، چھڑانا۔۔ ہ (قرق کیا ہوا مال یا ضبط شدہ مال) کو چھڑانا۔هَرَّبَ: ناجائز تجارت میں مشغول ہونا، ناجائز تجارت کرنا، غیر قانونی درآمد یا برآمد کرنا، سمگل کرنا، سمگلنگ کرنا۔تَهَرَّبَ من: سے بچ نکلنا، سے گریز کرنا، بچنا، (فرض و محصول وغیرہ) سے پہلو تہی کرنا، کنی کترانا، گریز کرنا، بچنا، ادھر ادھر ہٹنا، بچ نکلنا، کو ٹال جانا، پی جانا۔هَرَب: فرار، نجات، چھٹکارا، (فوجی نوکری) چھوڑ کر بھاگ جانا، روپوشی، عاشق کے ساتھ فرار۔هُرُوب: فرار۔هَرْبان: مفرور، بھاگا ہوا، بھاگ جانے والا، بھاگتا ہوا، پناہ گیر، پناہ گزین، مہاجر۔هَرَّاب: بزدل۔مَهْرَب جمع مَهارِب: (جائے) پناہ، کنج عزلت، کمین گاہ، جائے امن فرار، بھاگ جانا۔لا مَهْرَبَ منه: جس سے گریز ممکن نہ ہو، جس سے مفر نہ ہو، ناگزیر، مجبوری (کی بات)۔تَهْرِيب: ناجائز تجارت، سمگلنگ، غیر قانونی درآمد و برآمد، ممنوع تجارت۔هارِب: بھگوڑا، بھاگنے والا، مفرور، بھاگتا ہوا، پناہ گیر، پناہ گزین، فرار ہو جانے والا۔مُهَرِّب: ناجائز کاروبار کرنے والا، سمگلر (غیر قانونی درآمد برامد کنندہ)۔مُهَرَّب جمع مُهَرَّبات: ناجائز طور پر درآمد یا برآمد کیا ہوا مال، سمگل شدہ مال، ممنوع مال۔

هرت: هَرَتَ۔هَرْتًا ہ بالرمح: کو نیزہ مارنا۔۔ الثوبَ: کپڑا پھاڑنا۔۔ عِرضَ فلان: کی عزت خراب کرنا۔۔ اللحمَ: گوشت کو بہت گلانا۔هَرِتَ۔هَرَتًا الشیءُ: وسیع اور کشادہ ہونا۔هَرَّتَ تَهْرِيتًا الشیءَ: کو وسیع اور کشادہ کرنا۔کہا جاتا ہے هَرَّتَ شدقَهُ: اس نے اپنی باچھیں چوڑی کیں، اس نے منہ کھولا۔أهْرَتَ اللحمَ: گوشت کو بہت گلانا۔

الهَرِت و الهَرَّات و الهَرُوت (ح): شیر۔الهَرِيت: وسیع، چوڑی باچھوں والا (ح): شیر: راز فاش کرنے والا، بدزبان۔الأهْرَت: چوڑی باچھوں والا۔کہا جاتا ہے أسدٌ أهْرَتُ و أسُودٌ هُرْتٌ: چوڑی باچھوں والا شیر، چوڑی باچھوں والے شیر۔المُتَهارِت: چوڑی باچھوں والا، کوئی۔المَهْرُوت (مفع): شیر۔کلابٌ مُهَرَّتةُ الاشداق: چوڑی باچھوں والے کتے۔أسدٌ مُتَهَرِّتُ الشدق: چوڑی باچھوں والا شیر۔کہا جاتا ہے هو مَهْرُوت الفم جمع مَهارِيت: وہ چوڑی باچھوں والا ہے۔

هرث: ۱۔الهِرْث: بوسیدہ کپڑا۔

۲۔الهُرْثُم و الهُراثِم (ح): شیر۔الهُرْثُمَة: کتے کے نتھنوں کے درمیان کی سیاہی۔(ح): شیر۔

هرج: ۱۔هَرَجَ۔هَرْجًا الناسُ: لوگوں کا فتنہ وفساد میں پڑنا۔۔ فی الحدیث: بے جوڑ اور بہت گفتگو کرنا۔۔ الفرسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔هَرِجَ۔هَرَجًا الرجُلُ: گرمی یا چلنے سے سانس چڑھنا۔هَرَجَ النبیذُ فلانًا: نبیذ کا کسی کو مست کرنا۔عام لوگ کہتے ہیں هَرَّجَ فی الحدیث: گفتگو میں مزاح کرنا، ہنسانے والی باتیں کرنا، ایسے شخص کو مُهَرِّج کہا جاتا ہے۔۔ بالسبع: درندہ کو چلا کر ڈانٹنا۔تَهارَجَ القومُ: ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا۔اِنْهَرَجَ فلانٌ من النبیذ: نبیذ سے مست ہونا۔اِسْتَهْرَجَ لهُ الرأیُ: کی رائے کا مضبوط اور وسیع ہونا۔الهَرْج (مص): فتنہ وفساد۔الهِرَج: احمق، ہر کمزور چیز۔الهِرْجَة جمع هِرَج: هَرَج کا اسم نوع، نرم کمان۔الهَرّاج: مبالغہ کا صیغہ۔فرسٌ هَرّاجٌ: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔الهَرّاجَة: هَرّاج کا مونث، بے جوڑ اور بہت باتیں کرنے والی جماعت۔فرسٌ مِهْرَجٌ و مِهْراجٌ: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔

۲۔هَرَجَ۔هَرْجًا الباب: دروازہ کو کھلا چھوڑ دینا۔

۳۔الهِرْجاب و الهِرْجَبُ جمع هَراجِيب: لمبا انسان وغیرہ۔

۴۔الهَرْجَع: لمبا اور لنگڑا۔

۵۔هَرْجَلَ: لڑکھڑاتے ہوئے چلنا، لمبے لمبے قدم ڈالنا۔الهَراجِيل: لمبے لوگ موٹے اونٹ۔الهُرْجُل جمع هَراجِل: لمبے لمبے ڈگ بھرنے والا۔

۞ هَرَجَ۔هَرْجًا: برانگیختہ ہونا، بھڑکنا، مشتعل ہونا، جوش میں آنا، ہیجان میں آنا، ہل جل، افراتفری یا ہنگامہ میں پڑنا، بے کل اور بے قرار ہونا۔هَرَّجَ ہ: کو مست و مخمور کرنا، کے حواس مختل کر دینا، کو بہکا ہوا کر دینا، کو گھبرا دینا، چکرا دینا، کے ذہن یا شعور پر گھٹا کا چھا جانا، کہر کا چھا جانا، کے ذہن یا شعور کو دھندلا کر دینا۔۔ فی: (گفتگو میں) مذاق کرنا، دل لگی کرنا، فقرے کسنا۔هَرْج: برانگیختگی، ہیجان، گڑبڑ، کھلبلی، شورش، ہلچل، افراتفری، ہنگامہ، انتشار، پراگندگی، ابتری، بدنظمی، شور، فتنہ فساد، بے ترتیبی گڑبڑ، الجھن۔هَرْجٌ و مَرْجٌ:

افراتفری، پراگندگی، الجھن، ہل جل، کھلبلی، ہنگامہ، پریشانی، اضطراب، ابتری، سخت بدنظمی، خلل، اختلال۔مُهَرِّج: مسخرا، بھانڈ، نقال۔هَرْجَلَة: بدنظمی، ابتری، گڈمڈ، الجھن، افراتفری، پراگندگی۔

هرد: ۱۔هَرَدَ-هَرْدًا ہٗ: کو پھاڑنا، چیرنا۔ـــ الشیءَ: پر قادر ہونا، کوخراب کرنے کیلئے پھاڑنا۔ـــ اللحمَ: گوشت کو اس قدر گلانا کہ وہ بکھر جائے۔ـــ عِرضَهُ: کی آبروریزی کرنا۔هَرِدَ-هَرَدًا اللحمُ: گوشت کا پک کر ریزہ ریزہ ہونا۔هَـرَّدَ: زرد رنگ کا کپڑا (لباس) پہننا۔ـ اللحمَ: گوشت کو اس قدر گلانا کہ وہ بکھر جائے۔الهِرد: نکما آدمی۔الهُرْد (ن): زعفران، سرخ مٹی، ایک قسم کی جڑیں جن سے کپڑے زرد رنگے جاتے ہیں۔الهَرْد (مص): فتنہ وفساد۔الهِردی و الهِرْدَاء (ن): ایک پودا۔الهُرْدِیّ: هُرد سے رنگا ہوا۔رَجُلٌ أهْرَدُ الشدق: چوڑی باچھوں والا مرد۔الهَرِید: خراب ہو کر پھٹا ہوا۔المَهْرُود: زرد رنگ کا لباس جو هُرد سے رنگا گیا ہو۔

۲۔کہا جاتا ہے هَرَادَ الشیءَ يُهَرِيدُهُ هِرادةً: اراد الشیء یریده ارادةً کے معنی میں ہے۔کو حاصل کرنا چاہنا

۳۔الهِرْد (ح): شترمرغ۔

۴۔هَرْدَبَ هَرْدَبَةً: سست دوڑنا۔الهِرْدَبَّة: بڑھیا، بزدل، بڑے پیٹ والا۔

۵۔هَرْدَجَ الرجُلُ: تیز چلنا۔

⊙ هَرْدَبْشت (هَرْدَبَشْت): بے معنی باتیں، مہمل خیالات، لغویات، نکمی چیز، ردی چیز، الابلا، کوڑا کرکٹ، خس وخاشاک، آخور، پرانا یا ناکارہ سامان۔

هرز: هَرَزَ-هَرْزًا ہٗ: کو زور سے چھونا۔ـــ ہٗ: کو لکڑی سے مارنا۔هَرِزَ-هَرْزًا و هُرُوزًا: ہلاک ہو جانا، مرجانا۔تَهَرْوَزَ من الجوع: بھوک سے ہلاک ہونا۔

هرس: ۱۔هَرَسَ-هَرْسًا الشیءَ: کو خوب کوٹنا۔ـــ الطعام: کھانا بہت کھانا۔هَرِسَ-هَرَسًا: پیٹو ہونا، چبا کر کھانا۔الهَرْس (ح): بلی، بلا۔الهَرِس م هَرِسَة (ح): بلا۔(ح): بڑا خونخوار شیر، پرانا کپڑا۔هَرَاسَةُ القومِ: قوم کی عزت اور ان کا سخت حملہ۔کہا جاتا ہے لبنی فلان هَرَاسة: فلاں قبیلہ والوں کی بڑی دھاک ہے، جس کی وجہ سے وہ دشمن کو کچل ڈالتے ہیں۔الهُراس (ح): بڑا خونخوار شیر۔الهَرَّاس: صیغہ مبالغہ، بڑا خونخوار شیر، ہریسہ پکانے والا، ہریسہ بیچنے والا۔الهَرِیس: خوب اچھی طرح کوٹا ہوا۔ـــ والهَرِیسَة (ط): ایک قسم کا کھانا جو گوشت اور گندم کو کوٹ کر بنایا جاتا ہے۔الأهْرَس: سخت وزنی۔(ح) بڑا خونخوار شیر۔رجُلٌ مِهْرَسٌ: پیٹو۔المِهْرَاس جمع مَهَارِیس: ہاون، اوکھلی، بہت کھانے والا اونٹ، بھاری جسم کا اونٹ، رات کو چلنے میں نڈر۔

۲۔مَکانٌ هَرِسٌ م هَرِسَة: جگہ جہاں بڑے بڑے کانٹے دار درخت اُگے ہوئے ہوں۔الهَرَاس: واحد هَرَاسَة: بڑے بڑے کانٹوں والے درخت۔

⊙ هَرَسَ-هَرْسًا ہٗ: کو پیسنا، کچلنا، ابال کر کچلنا، کا گودا نکالنا، کو نچوڑنا، زخمی کرنا۔(گوشت) کو پیس کر نرم کرنا۔هَرِیسَة: آٹے پگھلے ہوئے مکھن اور چینی سے بنائی ہوئی مٹھائی۔هَرَّاس جمع هَرَّاسات: سٹیم رولر: steam roller جس سے سڑکیں بنائی جاتی ہیں۔آلةٌ هَرَّاسة: سٹیم رولر۔مِهْرَاس جمع مَهَارِیس: ہاون، کونڈی، کھرل۔

هرش: ۱۔هَرَشَ-هَرْشًا الدهرُ: زمانہ کا سخت ہونا۔هَرِشَ-هَرَشًا: بدخلق ہونا۔هَرَّشَ بین الکلاب: کتے لڑانا۔ـــ بین الناس: لوگوں میں فساد ڈالنا۔هَارَشَ مُهَارَشَةً و هِرَاشًا بعض الکلاب علی بعضها: کتوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا۔ـــ فلانٌ فلانًا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑنا۔تَهَارَشَ و اهْتَرَشَ تِ الکلابُ: کتوں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔الهَرِش: اکھڑ، ظالم۔الهِرَاش (مص): جھگڑا، لڑائی۔المُهَارِش: فا: فرسٌ مُهارِشُ العنان: مطیع گھوڑا۔

۲۔تَهَرَّشَ الغیمُ: بادل کا کھل جانا۔

۳۔هَرْشَفَ و اهْرَشَفَ ت الهِرْشَفَّةُ: دوات کی صوف کا سوکھ جانا۔تَهَرْشَفَ الماءَ: پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے پینا۔الهِرْشَف: بہت بوڑھی۔ـــ من الرجال: دبلا بوڑھا، بہت پینے والا۔الهِرْشَفَّة: بہت بوڑھی عورت، بوڑھی اونٹنی، دوات کا سوکھا ہوا صوف۔

⊙ هَرَّشَ بین: کے درمیان نااتفاقی کا بیج بونا۔هَارَشَ ہٗ: کے ساتھ جھگڑنا، بحث کرنا، تکرار کرنا، کے ساتھ جی بہلانا، کھیلنا، کلول کرنا، مذاق کرنا، دل لگی کرنا، کو چھیڑنا، سے چھیڑخانی کرنا۔هَرْش: نوچنا، کھرچنا، چھیلنا، ناخن مارنا، پنجہ مارنا، گھسنا، فرسودگی، گھسان، رگڑ، (اوزان، مشینوں کی) ٹوٹ پھوٹ کی منہائی۔هِرَاش: جھگڑا، لڑائی۔مَهْرُوش: مار مار کر گرایا ہوا، صورت بگاڑا ہوا، تھکایا ہوا۔

هرص: هَرِصَ-هَرَصًا: خشک کھجلی والا ہونا۔هَرَّصَ الرجُلُ: گرمی سے خشک خارش کی وجہ سے کے بدن میں آگ سی لگنا۔الهَرَص (ح): کیڑے، خشک خارش۔الهَرِیصَة: کھڑے پانی کا تالاب۔

هرض: هَرَضَ-هَرْضًا الثوبَ: کپڑا پھاڑنا۔هَرِضَ-هَرَضًا: خشک کھجلی والا ہونا۔هَرَّضَ: گرمی سے کھجلی لگنا۔

هرط: ۱۔هَرَطَ-هَرْطًا عِرضَ فلان و فی عِرضه: کی آبروریزی کرنا۔ـــ فی الکلام: بے جوڑ اور بیہودہ گفتگو کرنا۔تَهَارَطَا: ایک دوسرے کو گالی دینا۔

۲۔هَرِطَ-هَرَطًا: بیماری یا خوف سے گوشت کا ڈھیلا پڑنا۔الهَرْط (مص) جمع أهْرَاط و هُرُوط: بہت دبلا گوشت، متمول آدمی، دبلی بوڑھی بھیڑ۔ناقةٌ هِرْطٌ: بوڑھی اونٹنی۔الهِرْطَة جمع هِرَط: دبلی بوڑھی بھیڑ، بیوقوف، بزدل کمزور۔الهَبْرَط: نرم۔

۳۔الهَرْطَقة عند النصاری: (نصاریٰ کے نزدیک) دین میں بدعت، اس کی طرف نسبت کی صورت میں هَرْطوقی۔اس سے فعل بنا کر کہا جاتا ہے هَرْطَقَهُ فَهَرْطَقَ و تَهَرْطَقَ: اس نے اسے بدعتی بنایا تو وہ بدعتی ہو گیا۔(یونانی لفظ)

۴۔الهُرْطُمان: واحد هُرْطُمانة (ز): ایک قسم کا غلہ۔گیہوں اور جو کی درمیانی قسم۔

⊙ هَرْطَقَ: کافر ہونا، بدعتی ہونا۔هَرْطَقَة: کفر، بدعت۔هَرْطُوقی جمع هَرَاطِقَة: کافر، بدعتی۔هَرَاطِقی: کافر، بدعتی۔هُرْطُمان: ایک قسم کی جئی۔

هرع: ۱۔هَرَعَ-هَرَعًا الیه: اضطراب وعجلت میں کی طرف جانا۔هَرِعَ-هَرَعًا الدمُ: خون کا تیزی سے بہنا۔ـــ الرجُلُ: تیز رفتار یا جلد رونے والا ہونا۔هُرِعَ الرجُلُ: چلنے میں جلدی کرنا۔هَرَّعَ القومُ الرماحَ: نیزوں کو سیدھا کر کے چلنا۔هُرِّعَ الرجُلُ: چلنے میں جلدی کرنا۔أهْرَعَ الرجُلُ: جلدی کرنا۔ـــ القومُ رماحَهُم: نیزے سیدھے کر کے چلنا۔أُهْرِعَ الرجُلُ: کم عقل ہونا، جلدی دوڑنا یا جانا۔صفت مُهْرَع: (کہا جاتا ہے اقبل الشیخ یُهْرَعُ: بوڑھا پریشان دوڑتا آیا) غصہ، کمزوری، خوف یا ٹھنڈ سے کانپنا، لرزنا۔تَهَرَّعَ الیه: کی طرف جلدی کرنا۔ـــ ت الرماحُ: نیزوں کا سیدھا ہونا۔اهْتَرَعَ العودَ: لکڑی توڑنا۔اُسْتُهْرِعَ ت الابلُ: اونٹوں کا حوض کی طرف دوڑنا۔الهَرِع: جلدی بہنے والا خون۔رجُل هَرِع م هَرِعَة: جلد رونے والا، تیز رفتار آدمی۔الهَرَع (مص): پریشانی کا چلنا، تیز ہانکنا۔الهُرَاع: پریشانی اور جلدی میں چلنا، تیز ہانکنا۔الهَرِیعَة: چھوٹی شاخوں والا پودا۔المُهْرَع (مفع): حریص، لالچی۔

المَهْرُوع: دیوانہ، محنت ومشقت سے درماندہ۔
۲۔الهَرُعَة و الهَرَعَة (ح): جوں کی طرح کا ایک کیڑا، چھوٹی جوں یا بڑی جوں۔
۳۔الهَيْرَع: بزدل، کمزور، بہت گھبرانے والا، بے وقوف، متلون مزاج عورت۔ ريحٌ هَيْرَعٌ: تیز چلنے والی ہوا۔ الهَيْرَعَة: چرواہے کی بانسری۔ اسے يراعة بھی کہتے ہیں۔ ريحٌ هَيْرَعَةٌ: تیز چلنے والی ہوا۔
ⓒ هَرَعَ -هَرَعًا و هُرِعَ يُهْرَعُ هَرَعًا الی: کی طرف یا پاس جلدی جانا، تیزی سے جانا۔ هَرَّعَ و اَهْرَعَ: جلدی جانا، تیزی سے جانا۔ هَرَعٌ: دوڑ، جھپٹ، جلدی، پھرتی، تیزی، عجلت، جلد بازی، کھلبلی، بے تابی۔ هُرَاعٌ: کھلبلی، بے تابی، جلد بازی، عجلت، تیزی، پھرتی، جلدی۔
هرف: هَرَفَ -هَرْفًا بفلان: کسی سے متعجب ہو کر اس کی بہت تعریف کرنا، بغیر جانے ہوئے تعریف کرنا۔ لا تهرف بما لا تعرف: جس کو نہ جانو اس کی تعریف نہ کرو۔ — تْهُ الريحُ: کو ہوا کا ہلکا پانا۔ — السبع: درندہ کا آواز دینا جاری رکھنا۔
۲۔هَرَّفَ تَهْرِيفًا النخلةَ: درخت خرما کا وقت سے پہلے پھل دینا۔ — القومُ الی الصلوٰة: نماز کی طرف جلدی کرنا۔ اَهْرَفَ تِ النخلةُ: درخت خرما کا وقت سے پہلے پھل دینا۔ — الرجلُ: مالدار ہونا۔
ⓒ هَرَفَ -هَرْفًا ب: کی بہت تعریف کرنا، بے جا تعریف کی بھرمار کرنا۔
هرق: ۱۔هَرَقَ -هَرْقًا الماءَ: پانی گرانا۔ هَرَّقَ الماءَ: پانی گرانا (تشدید کثرت کیلئے)۔ کہا جاتا ہے: هَرِّقْ علی جمرك: اپنے غصہ کے انگارے پر پانی ڈالو یعنی غصہ ٹھنڈا کرو۔ هَرَاقَ يُهَرِيقُ هِرَاقَةً الماءَ: پانی گرانا، ڈالنا۔ اس کی اصل اراقه يريقه اراقة ہے۔ ہمزہ هاء میں بدل گئی ہے۔ هَرَاقَة کی اصل هَرْيَقَةٌ ہے۔ دحرجه کے وزن پر۔ اس بنا پر هاء مضارع میں مفتوح آتی ہے۔ چنانچہ يُهَرِيقُهُ کہا جاتا ہے۔ جیسے يُدَحرِجه میں دال مفتوح ہوتی ہے۔ امر کا صیغہ هَرِقْ ہے جو اصل میں هَرْيِقْ ہے۔ دَحْرِج کے وزن پر۔ تثنیہ میں هَرِيقا اور جمع میں هَرِيقُوا کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هَرِيقُوا عليكم اوّلَ الليل: وہ تمہارے پاس رات کے شروع میں اترے۔ کبھی هاء اور ہمزہ کو متحد کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: اَهْرَاقَهُ يُهْرِيقُهُ اِهْرَاقَةً: اسی سے اسم الفاعل مُهْرِيق اور اسم المفعول مُهْرَاق و مُهَرَاق آتا ہے۔ اَهْرَقَ الماءَ: پانی گرانا، ڈالنا۔ تَهَارَقُوا: ایک دوسرے پر پانی گرانا، ڈالنا۔ اِهْرَوْرَقَ اِهْرِيرَاقًا الدمعُ و المطرُ: آنسو اور بارش کا بہنا۔ المُهْرَق جمع مَهَارِق: اُهْرِقَ کا اسم مفعول۔ المُهْرُقَان و المَهْرُقَان و المُهْرُقَان: سمندر، سمندر کا ساحل جہاں پانی آکر سمٹ گیا ہو اور کوڑیاں چھوڑ گیا ہو۔ مطرٌ مُهْرَوْرِقٌ: زور سے برسنے والی بارش۔
۲۔الهِرق: پرانا کپڑا۔ المُهْرَق جمع مَهَارِق: صحیفہ۔ سفید ریشم کا کپڑا جس کو گوند سے چکنا کر کے لکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ چٹیل بیابان، کپڑے یا کاغذ چکنے کرنے کا آلہ۔
۳۔هِرْقَل و هِرَقْل: چھلنی۔
ⓒ هَرَقَ -هَرْقًا ه: کو بہانا، گرانا، ٹپکانا، پھینکنا، چھلکانا۔ اَهْرَقَ ه: کو قربان کرنا، کو بہانا، گرانا، ٹپکانا، پھینکنا، چھلکانا۔ مُهْرَاق: گرایا ہوا، چھلکایا ہوا، گرایا ہوا۔ مُهْرُقَان و مُهْرُقَان: ساحل، سمندر۔ اِهْرَاق: گرانا، بہانا، ٹپکانا۔ اِهْرَاقُ الدِمَاءِ: قتل و غارت گری، خونریزی۔ مُهْرَق: گرایا ہوا، بہایا ہوا، ٹپکایا ہوا جمع مَهَارِق: چرم، چرمی کاغذ، مومی کاغذ۔ هِرَقْل و هِرْقِل: ہرقل (بازنطینی شہنشاہ) یونانی اسم ہرکولیس جس میں بلا کی طاقت تھی۔
هرك: هَرْكَلَ هَرْكَلَةً: مٹک کر چلنا۔ الهَرْكَلَة: ناز و انداز کی چال۔ — و الهِرْكِلَة و الهِرْكَوْلَة و الهِرْكَوْلَة و الهِرْكِيل: خوش اندام و رفتار یا موٹے سرین کی عورت۔ جملٌ او رجلٌ هُرَاكِلٌ: موٹا جسیم اونٹ یا آدمی۔ الهَرَاكِلَة، مفرد هِرْكَل: بڑی بڑی مچھلیاں۔ (ح): آبی کتے۔ موٹے سرین والے آبی جانور، سمندری لہروں کی جمع ہونے کی جگہ۔
هرل: الهَرَل: پہلے خاوند کا بیٹا۔
هرم: ۱۔هَرِمَ -هَرَمًا و مَهْرَمًا و مَهْرَمَةً: بہت بوڑھا اور کمزور ہونا۔ صفت هَرِم جمع هَرِمُون و هَرْمَى م هَرِمَة جمع هَرِمَات و هَرْمَى۔ هَرَّمَهُ الدهرُ: کو زمانہ کا بوڑھا کرنا۔ — فلانًا: کی تعظیم کرنا۔ کہا جاتا ہے جاء فلان يُهَرِّمُ علينا الامرَ او الخبرَ: فلاں شخص نے آکر معاملہ یا خبر کو بڑھا دیا اور اس کی قدر و قیمت سے بڑھ کر بیان کیا۔ — اللحمَ: گوشت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا۔ اَهْرَمَهُ الدهرُ: کو زمانہ کا بوڑھا کرنا کمزور کرنا۔ تَهَارَمَ الرجلُ: بوڑھا ہونے کا بہانہ کرنا۔ اِسْتَهْرَمَهُ: کو بوڑھا سمجھنا، بوڑھا پانا۔ الهَرْمُ واحد هَرْمَة (ن): ترشی لئے ہوئے ایک نمکین بوٹا۔ کہا جاتا ہے: هو اذلّ من هَرْمَةٍ: وہ هرمة سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ الهَرَم و اَهْرَام و هِرَام (ه): ایک مخروطی شکل کی عمارت جس کی کرسی خواہ مثلث و مربع شکل کی ہو خواہ کئی اضلاع کی۔ ارتفاعُ الهرمِ: ہرم کی کرسی سے اس کی چوٹی کا بعد۔ هَرَم منتظم: کثیر الاضلاع کرسی والا اہرم۔ عامدُ الهرم المنتظم او علوُّه المائل: ہرم کی کرسی کے ایک ضلع سے اس کی چوٹی کا فاصلہ۔ جذع الهرم یا هرم ناقص و هرم مخروط: مخروط ہرم، کٹے ہوئے سر والا اہرم۔ الهَرِم: بہت بوڑھا۔ قَدَحٌ هَرِم: ٹوٹا ہوا پیالہ۔ الهَرِمَة: هرم کا مؤنث۔ (ح): شیرنی۔ ابنُ هِرْمَةَ: بڑھاپے کی آخری اولاد۔ الهَرْمِي: سوکھی لکڑی۔ المَهْرَمَة (مص): انتہائی بڑھاپا۔ المِهْرَمَة جمع مَهَارِم: لکڑی جس پر گوشت تمباکو وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کئے جاتے ہیں۔
۲۔الهِرْم: نفس، جان، سمجھ۔ (کہا جاتا ہے انك لا تدری بما يُولَعُ هِرْمُكَ: تو نہیں جانتا کہ تیرا نفس اور سمجھ کس چیز کی دیوانی ہے)، عمدہ رائے۔ الهُرمان: سمجھ، عمدہ رائے۔ الهَرُوم: بدخلق شریر عورت۔
۳۔هَرْمَزَ هَرْمَزَةً الرجلُ: کمینہ ہونا، خفیف سا چبانا۔ ساتھی سے چھپائی ہوئی بات بیان کرنا۔ اللقمةَ: لقمے کو چبا کر منہ میں پھرانا مگر نہ نگلنا۔ — ت النارُ: آگ کا بجھنا۔
۴۔هَرْمَسَ هَرْمَسَةً وجهُهُ: تیوری چڑھانا۔ الهَرْمَسَة (مص): لوگوں کا شور و غل۔ الهِرْمِس: آدم خور شیر۔ الهَرَامِسَة واحد هِرْمِس: علمائے نجوم (یونانی لفظ)۔ الهِرْمَاس: آدم خور شیر۔ (ح): چیتے کا بچہ۔ الهِرْمُوس: مضبوط رائے والا، تجربہ کار، چالاک۔ الهِرْمِيس: آدم خور شیر۔ (ح): گینڈا۔
۵۔اِهْرَمَّعَ اِهْرِمَّاعًا الرجلُ: تیز چلنا، جلدی رو پڑنا، کہا جاتا ہے اِهْرَمَّعَتِ العينُ: آنکھ نے جلد آنسو بہائے۔ — فی منطقه: بہت بولنا۔ — اليه: کے سامنے بناوٹی رونا رونا۔ الهِرْمِعُ: جلد رو پڑنے والا، چال میں تیزی و سبکی۔
۶۔هَرْمَلَ هَرْمَلَةً: کے بال اکھیڑنا۔ — الشعرَ: بال اکھیڑنا، کاٹنا اور اس طرح پشم اور پر اکھیڑنا، کاٹنا۔ — عملَهُ: کا کام خراب کرنا۔ — ت العجوزُ: بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہونا۔ — الوبرُ: پشم (بال) گرنا۔ الهِرْمِل: بوڑھی عورت، بوڑھی اونٹنی۔ الهُرْمُول جمع هرامیل: بال جو سر کے کناروں پر رہ جاتے ہیں۔ تیز بالوں اور پشم کا وہ ٹکڑا جو سر کے کناروں پر رہ جائے۔

هَرِمَ -هَرَمًا و مَهْرَمًا و مَهْرَمَةً: بوڑھا اور شھیا ہوا ہو جانا، خستہ حال اور زار و نزار ہو جانا۔ هَرَّمَ ہ: کا قیمہ کرنا، کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ هَرَم: بڑھاپا، ضعف، پیری، درماندگی، خستہ حالی، کمزوری، کہن سالی، ضعیفی۔ هَرَم جمع أَهْرَام و أَهْرَامَات: مخروطی مصری مینار۔ هَرَمِي: مخروطی مینار جیسا، مینار آسا، مخروطی۔ هَرِم: بوڑھا ضعیف، کہن سال، نحیف، خستہ حال، عمر رسیدہ۔ هَرْمَسَ (چہرے کا) سنجیدہ ہونا، سخت ہونا، کڑا ہونا، اداس، دلگیر، ملول، افسردہ، سُوتا یا بے رونق ہونا۔ هَرْمُون جمع هَرْمُونَات: ہارمون (Harmone): ایک مادہ جو غدودوں سے نکل کر خون میں شامل ہوتا ہے اور تحریک اعضاء کا باعث بنتا ہے۔

هرن: هَرْنَفَ هَرْنَفَةً: کمزور ہنسی ہنسنا، مسکرانا۔ الْمُهَرْنِفَة: رونے میں کمزور آواز والی عورت۔

هَرْهَرَ ہ: کو حرکت دینا، ہلانا۔ علی: پر حملہ کرنا۔

هرو: ۱۔هَرَا يَهْرُو هَرْوًا و تَهَرَّى تَهَرِّيًا ہ: کو ڈنڈے سے مارنا۔ الْهِرَاوَة جمع هَرَاوَى و هُرِيّ و هِرِيّ: موٹا ڈنڈا۔

۲۔هَرَاة: خراسان کے ایک شہر کا نام۔ نسبت کیلئے هَرَوِي: ہرات کا، ہرات کے متعلق۔ الْهَرَّاء: ہرات شہر کے کپڑے بیچنے والا۔

۳۔هَرْوَلَ: تیز چلنا۔ هَرْوَلَة: تیز قدمی۔ مُهَرْوِل: تیز چلنے والا، تیز رفتار، جلدی میں۔

هَرَا - هَرْوًا ہ: کو بید سے مارنا، کو کوڑے لگانا، پیٹنا، چابک لگانا۔ هِرَاوَة جمع هَرَاوَى: لاٹھی، بید، چھوٹا ڈنڈا، سپاہی کا ڈنڈا، ڈنڈا۔

هری: هَرَى يَهْرِي هَرْيًا ہ: کو ڈنڈے سے مارنا۔ هَرِيَ الثَّوْبُ: کپڑے کو بوسیدہ کرنا۔ اهترى: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ هَرَّى تَهْرِيَةً الثَّوْبَ: کپڑے کو زرد رنگنا۔ هَارَى مُهَارَاةً ہ: سے ٹھٹھا کرنا۔ الْهِرَاء: کھجور کا پودا۔ الْهُرْي جمع أَهْرَاء: غلہ جمع کرنے کا مکان (لاتینی لفظ)۔

هُرْي جمع أَهْرَاء: اناج کی کوٹھی۔ هَارٍ: لڑکھڑا کر چلنے والا، ڈانواڈول۔

هز: ۱۔هَزَّ - هَزًّا الشَّيءَ و بالشيءِ: کو ہلانا۔ من عِطْفِ فلان: کو کام کے لئے ابھارنا۔ به السَّيْرُ: سیر کی وجہ سے جلدی چلنا۔ هَزِيزُ الإِبِلِ: حُدی سے اونٹوں کو نشاط میں لانا۔ الكَوْكَبُ: ستارہ کا ٹوٹنا۔ هَزَّزَ تَهْزِيزًا ہ: کو حرکت دینا۔ تَهَزَّزَ: ہلنا، حرکت کرنا۔ اِهْتَزَّ: حرکت کرنا، ہلنا۔ ت الإبلُ: حدی خواں کی حدی سے اونٹوں کا جھومتے ہوئے چلنا۔ الماءُ في جريانه: پانی کا جاری ہونا۔ الیه قلبُهُ: خوش ہونا۔ کہا جاتا ہے هو يَهْتَزُّ للمعروف: وہ اچھے اعمال پر خوش ہوتا ہے۔ الكوكبُ في انقضاضه: ستارہ کا جلدی ٹوٹنا۔ تِ الارضُ: زمین کا نباتات اگانا۔ النباتُ: پودوں کا لہلہانا اور دراز ہونا۔ الهَزَّة: جھٹکا، صدمہ، لرزہ، حرکت۔ امرأة هَزَّةٌ: شرارت میں چست اور خوش ہونے والی عورت۔ جمع نساءٌ هَزَّاتٌ۔ الهِزَّة: هَزّ کا اسم نوع، ایک طرح کا ہلنا۔ اونٹوں کی ایک چال کی قسم۔ خوشی، چستی، خوش دلی کی فیاضی، ہانڈی کے ابلنے کی آواز، بادل کی گڑگڑاہٹ، گھن گرج کی گونج۔ الهَزَائز: سختیاں (اس کا واحد نہیں آتا)۔ الهَزِيز (مص): بادل کی گڑگڑاہٹ، ہوا کی سائیں سائیں۔ المَهَزّ و المَهَزَّة: حرکت۔

۲۔هَزْهَزَ هَزْهَزَةً الشيءَ: کو ہلانا۔ هُ: کو مغلوب کرنا۔ تَهَزْهَزَ الشيءُ: ہلنا۔ الیه قلبی: پر دل کا خوشی سے اچھلنا۔ الهَزَاهِز: ہلا دینے والے فتنے۔ کہا جاتا ہے فلانٌ شَهِدَ الهَزَاهِزَ: فلاں شخص نے جنگیں اور سختیاں دیکھیں۔ ماءٌ هَزَاهِز: ہلتا ہوا صاف پانی۔ الهُزَاهِز: کثرت سے بہنے والا پانی۔ کہا جاتا ہے: ماءٌ هُزَاهِز: ہلتا ہوا صاف پانی۔ بعيرٌ هُزَاهِز: سخت آواز اونٹ۔ الهَزْهَاز: کثرت سے بہنے والا پانی۔ سيفٌ هَزْهَاز: صاف اور چمکتی ہوئی تلوار۔ الهُزْهُز: کثرت سے بہنے والا پانی۔ کہا جاتا ہے: ماءٌ هُزْهُزٌ: صاف ہلتا ہوا پانی۔ بئرٌ هُزْهُزٌ: بہت گہرا کنواں۔ عينٌ هُزْهُزٌ: بہت پانی والا چشمہ۔ الهَزْهَزَة (مص): لوگوں کو ہلا ڈالنے والی آفتیں اور جنگیں۔ کہا جاتا ہے شَهِدَ فلانٌ الهَزْهَزَةَ: فلاں شخص نے ہلا دینے والی آفتیں اور جنگیں دیکھیں۔

هَزَّ - هَزًّا ہ / ب: کو ہلانا۔ ہ: نیزہ یا تلوار کو گھمانا، لہرانا، حرکت دینا۔ ہ: کو آگے پیچھے یا ادھر ادھر ہچکولے دینا، ہلانا، کو لرزانا۔ ہ: کو ہلانا، جھنجوڑنا، الٹ دینا، درہم برہم کرنا، جھلانا۔ هَزَّ كَتِفَيْهِ: کندھے اچکانا۔ هَزَّ رأسَهُ: سر کو آگے کو ہلانا، سر ہلانا۔ هَزَّ ذَيْلَهُ: دم ہلانا۔ هَزَّزَ ہ: کو ہلانا، گھمانا، لہرانا، حرکت دینا۔ تَهَزَّزَ: متاثر ہونا، دھڑکنا، مشتعل ہونا، ہچکولے کھانا، الٹنا، اوندھا ہونا، زور سے ہلنا، جھنجوڑا جانا، صدمہ سے دوچار ہونا، بھڑکنا، جھومنا، ڈگمگانا، ڈولنا، لہرانا، مڑنا، تھرتھرانا، گونجنا، جھولنا، آگے پیچھے حرکت کرنا۔ اِهْتَزَّ بمعنی تَهَزَّزَ نیز اِهْتَزَّ: کانپنا، لرزنا، ہچکولے کھانا، جھٹکے کھانا، متحرک ہونا، تھرانا۔ لـ: سے متاثر ہونا، سے بہت متاثر ہونا، سے دل پر اثر ہونا، (اونٹ پر سوار کا) ہچکولے کھانا۔ لا نَهْتَزُّ له كثيرا: یہ بات ہمیں زیادہ متاثر نہیں کرے گی، امکان نہیں کہ یہ ہمیں پریشان کرے، یہ بمشکل ہمارے لئے دردسر پیدا کرے گی۔ اِهْتَزَّ فرحًا: خوشی سے کانپنا۔ اِهْتَزَّ الیه قلبُهُ: پرخوشی کے مارے پھولنا، پرخوشی میں آپے سے باہر ہونا۔ هَزَّة جمع هَزَّات: حرکت، ہل چل، کھلبلی، الٹ پلٹ کرنے کا عمل، گڑبڑ، شورش، افراتفری، ہنگامہ، بے کلی، بے قراری، جنبش، اشتعال، اضطراب، پریشانی، شورش، اینٹھن، کپکپی، تشنج، جھٹکا، دھوکا، ہچکولہ، دھچکا، ریل پیل، زبردست کوشش، حملہ، دباؤ، عزم، ہمت۔ (برقی) صدمہ، ارتعاش۔ اہتزازی حرکت، جھولنا، آگے پیچھے حرکت کرنا، تھرتھراہٹ، لرزہ، رعشہ، زلزلہ، لرزش۔ هَزَّة ارضية: زلزلہ، زلزلہ کا جھٹکا۔ هَزَّةُ السرور (الطرب، الفرح): پرمسرت یا پر انبساط جوش یا ہیجان، خوشی، سرور، سرمستی، ناقابل برداشت مسرت، وجد، جوش، کمال مسرت۔ هِزَّة: سرگرمی، خوش مزاجی، زندہ دلی، ولولہ، بشاشت، بہت خوشی۔ هَزَّاز: ہلنے والا، ہچکولے کھاتا ہوا، ہلتا ہوا، لڑھکتا ہوا، جھولتا ہوا، گھومتا ہوا، جنبش دینے والا آلہ۔ هَزِيز: (ہوا کی) سائیں سائیں، (گرج، گھن گرج کی) گڑگڑاہٹ۔ مَهَزَّة: جوش، تحریک، حرکت، اضطراب

هزأ: هَزَأَ يَهْزَأُ هَزْءًا ہ: کو توڑنا۔ ـ إبِلَهُ: اونٹوں کو سردی سے مار ڈالنا۔ ـ زيدٌ: مرنا۔ ـ راحلتَهُ: اونٹنی کو حرکت دینا، حرکت میں لانا۔ ـ هَزْءًا و هُزْءًا و هُزُوًّا و هُزُوءًا و مَهْزَأَةً بفلان و منه: سے مسخری کرنا۔ هَزِئَ - هَزَأً: مرنا۔ ـ هَزْءًا و هُزْءًا و هُزُوًّا و هُزُوءًا و مَهْزَأَةً بفلان و منه: سے مسخری کرنا۔ أَهْزَأَ إِهْزَاءً: سخت سردی سے تکلیف پانا۔ ـ إبِلَهُ: اونٹوں کو سردی سے مارنا۔ ـ ت به دابَّتُهُ: کو جانور کا جلدی لیجانا۔ تَهَزَّأَ تَهَزُّؤًا و تَهَازَأَ تَهَازُؤًا و اسْتَهْزَأَ اسْتِهْزَاءً: ٹھٹھا کرنا۔ الهَازِئُ فا: کہا جاتا ہے هذه مَفَازَةٌ هَازِئَةٌ بالركب و هُزَأَةٌ بهم: یہ بیابان دشوار گزار ہے (گویا کہ جب سواریوں کو مشقت اور کمزوری لاحق ہو جاتی ہے تو بیابان ان سے ٹھٹھا کر رہا ہوتا ہے)۔ غداة هازئة: سخت ٹھنڈی صبح۔ رجلٌ هُزْأَة: مرد جس پر ٹھٹھا کیا جائے۔ کہا جاتا ہے هو هُزْأَة بين الناس: لوگ اس پر ٹھٹھا کرتے ہیں۔ رجلٌ هُزَأَة: لوگوں سے ٹھٹھا کرنے والا۔

هَزَأَ و هَزِئَ - هَزْءًا و هُزْءًا و هُزُوءًا و

مَهْزَأَةً ب/من: پر ہنسنا، کا مذاق اڑانا، کی ہنسی اڑانا، پر فقرے کسنا، پر پھبتی کسنا، کو چھیڑنا، کا منہ چڑانا۔ تَهَزَّأً و اِسْتَهْزَأَ ب/من/علی: کا مذاق اڑانا، پر ہنسنا، کی ہنسی اڑانا۔ هَزْء و هُزْءٌ و هُزُءٌ: تضحیک، ہنسی، تمسخر، حقارت، توہین، تذلیل، مذاق، ہنسی اڑانا۔ هُزَئِیّ: مذاق اڑانے والا، تضحیک آمیز، نفرت آمیز۔ هُزْأَةٌ: اضحوکہ، ہدف استہزاء، نقل محفل، تمسخر کی چیز۔ هُزَأَةٌ: مذاق کرنے والا، طنز کرنے والا، نفرت کرنے والا، حقارت کرنے والا۔ مَهْزَأَة: استہزاء، تحقیر، مذاق، تمسخر، حقارت، نفرت، بیزاری، اہانت، توہین، تضحیک، طعنہ زنی، مذاق، مسخرا پن، طعنہ، آوازہ، حقارت کا تبسم۔ بـاسـتـهـزاء: مذاق سے، تمسخر سے، حقارت سے۔ هَـازِئ: مذاق اڑانے والا، چڑانے والا، طنز کرنے والا۔ مُسْتَهْزِئ: مذاق اڑانے والا، طنز کرنے والا، چڑانے والا۔

هزب: ۱۔هَزْبَرَهُ: کو کاٹنا۔ الهِزْبَر جمع هَزَابِر: موٹا، مضبوط، قوی بہت سخت۔ و الهِزْبَر و الهَزَابِر جمع هَزَابِر (ح): شیر۔

۲۔هَزْبَلَ هَزْبَلَةً الرجُلُ: سخت مفلس ہونا۔ الهَزْبَلِيل: تھوڑا۔

هزج: ۱۔هَزِجَ ـهَزَجًا المغنّی فی غناء ہ: گویّے کا سُر و راگ سے گانا یا پڑھنا۔ بحر ہزج کے اشعار پڑھنا۔ هَـزَجَ: بـمـعنی هَزِجَ۔ صوتہٗ: آواز برقرار رکھنا۔ اَهْـزَجَ الشـاعِـرُ: بحر ہجز کے اشعار بنانا۔ تَهَزَّجَ الصوتُ: آواز کا پے در پے ہونا۔ ـــ ت القوسُ: کمان کا آواز نکالنا۔ الرعدُ: بادل کا گرجنا۔ الهزج: (مص) گرج کی آواز، ایک سروالا ترانہ، سریلی آواز، ہر بحر دار کلام عروض کی ایک بحر کا نام۔ جس کا وزن مفاعیلن چار بار ہے۔ قدموں کا ہلکا پن اور سرعت۔ الهَـزِج: ترانہ گانے والا۔ فرسٌ هَزِجٌ: ہلکے قدم ڈالنے والا گھوڑا، تیز قدم اٹھانے والا گھوڑا۔ الاُهْزُوجَة جمع اَهَازِيج: گیت۔

۲۔الهزیج من اللیل: رات کا ایک پہر۔

ⓒ هَزِجَ ـهَزَجًا: گانا۔ هَزَج: عروض کی ایک بحر کا نام۔ اُهْزُوجة جمع اهازیج: گیت۔

هزر: ۱۔هَزَرَ ـهَزْرًا ہٗ بالعصا: کی لاٹھی سے خوب پٹائی کرنا۔ الشیءَ: کو زور سے چھونا۔ فلانًا: کو جلا وطن کرنا۔ صفت مفعولی مَهْزُور و هَزِير۔ ـــ بہ الأرضَ: کو زمین پر پچھاڑنا۔ البائعُ: چیز مہنگی بیچنا، گراں کرنا، قیمت چڑھانا۔ الهِزْر: سخت، فریب خوردہ، بے وقوف۔ الهَـزْرَة: کاہل سستی۔ ـــ

والهَـزْرَة جمع هَـزَرَات: نرم زمین۔ کہا جاتا ہے: رجُلٌ ذُو هَزَرَات: ہر چیز میں نقصان اٹھانے والا۔ رجُلٌ مِهْزَرٌ: ہر چیز میں نقصان اٹھانے والا۔

۲۔هَزَرَ ـهَزْرًا لفلان: کو بہت عطیہ دینا۔ الرجُلُ: حاجت کیلئے جلدی کرنا۔

۳۔هَزَرَ ـهَزْرًا الرجُلُ: ہنسنا۔

۴۔الهَزَار جمع هَزَارَات (ح): بلبل۔ ہزار دستان۔

۵۔هَـزْرَفَ فـی عَـدْوِهٖ: تیز دوڑنا۔ الهِـزْرَاف و الهُزَارِف و الهِزْرُوف: تیز رفتار شتر مرغ۔ الهِزْرَفِی: بہت حرکت کرنے والا۔ الهُزْرُوف: تیز رفتار شتر مرغ، بڑے جسم کا۔

ⓒ هَزَرَ ـهَزْرًا: ہنسنا۔ هَزَّرَ: مذاق کرنا، دل لگی کرنا، فقرہ کسنا، طعن کرنا۔ هِزَار: مذاق، دل لگی۔

هزع: ۱۔هَزَعَ ـهَزْعًا: جلدی کرنا، ہلنا، لرزنا، کانپنا۔ الشیءَ: کو توڑنا۔ هَزَّعَ تَهْزِيعًا ہٗ: کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تَهَزَّعَ الرجُلُ: جلدی کرنا۔ ـــ ت المراۃ فی مشيتها: عورت کا ڈگمگانا۔ ـــ تِ الابلُ فی سیرها: اونٹوں کا ہلتے ہوئے چلنا۔ ـــ الرجُلُ: تیوری چڑھانا۔ اِنْهَزَعَ الشیءُ: ٹوٹنا۔ اِهْتَزَعَ: جلدی کرنا، ہلنا، لرزنا، کانپنا۔ ـــ السیفُ و نحوُہٗ: تلوار وغیرہ کا ہلنا۔ الهَزَع: اضطراب، بے چینی، بے قراری۔ الهُـزَعُ و الهَـزَّاع (ح): شکار کو بہت پھاڑنے والا شیر۔ الهَيْزَعَة: خوف، جنگ میں شور و غل، اضطراب، قلق۔ الهَزِيع: بے وقوف۔ المِهْزَع: درختوں کو توڑنے والا، کوٹنے کا آلہ، بہت جلدی کرنے والا۔ سیفٌ مُهْتَزِعٌ: اچھی طرح چلنے والی تلوار۔ فرسٌ مُهْتَزِعٌ: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

۲۔تَهَزَّعَ لہٗ: سے اپنے کو انجان بنانا۔ الهَزِيعُ من اللیل جمع هُزُع: رات کا ایک حصہ، ایک تہائی یا ایک چوتھائی رات، یا رات کی ایک گھڑی۔

۳۔الهِزَاع: اکیلا، منفرد۔ کہا جاتا ہے: ما فی الجعبة الاسهمٌ هِزَاع: ترکش میں صرف ایک ہی تیر ہے۔ الأَهْزَعُ: ترکش کا آخری تیر، خواہ ناکارہ ہو یا کارآمد۔ کہا جاتا ہے: ما لہٗ اَهزعُ (غیر منصرف): اس کے پاس کچھ نہیں۔ ما فی الدار اَهْزَعُ: گھر میں کوئی بھی نہیں۔ ما بقی فی سنام بعیرك اَهْزَعُ: تمہارے اونٹ کے کوہان میں چربی باقی نہیں رہی۔

ⓒ هَزَعَ ـهَزْعًا و تَهَزَّعَ: جلدی کرنا۔ هَزِيع: رات کا ایک حصہ، پہر۔

هزف: هَزَفَ ـهَزْفًا تہٗ الریحُ: ہوا کا کسی چیز کو اڑا لے جانا۔

هزق: هَزِقَ ـهَزَقًا: چست ہونا۔ ـــ و اَهْزَقَ فی الضحك: بہت ہنسنا۔ الهَزَق: چستی، رعد کی سخت آواز۔ الهَزِق: سخت گرج، سخت گھن گرج۔ ـــ من الرجال: بہت ہنسنے والا اوچھا آدمی۔ الهَزِقَة من النساء: ایک جگہ ٹک کر نہ بیٹھنے والی عورت۔ المِهْزَاق: چنچل عورت، بہت ہنسنے والی۔ رجُلٌ مِهْزَاق: بہت ہنسنے والا اوچھا آدمی۔

هزل: ۱۔هَـزَلَ ـهَـزْلًا و هُزْلًا و هُزَالًا: لاغر و کمزور ہونا۔ ـــ ت حالُ فلان: کا حال (یا حالت) پتلا (پتلی) ہونا (کہا جاتا ہے: لہ فضلٌ جزیلٌ و حالٌ هزیلٌ: وہ بہت فیض رساں ہے مگر حالت پتلی ہے)۔ ـــ هَزْلًا الدابَّةَ: جانور کو دبلا کرنا، کمزور کرنا۔ ـــ القومُ: لوگوں کے مویشیوں کا دبلا ہونا، دبلے مویشیوں والے ہونا۔ فلانٌ: کسی کا جانوروں کے مرنے سے محتاج و تنگ حال ہونا۔ هَزِلَ۔ و هُزِلَ هَزْلًا و هُزْلًا و هُزَالًا: دبلا اور کمزور ہونا۔ هَزَّلَ ہٗ: کو دبلا کرنا۔ اَهْزَلَ فلانًا: کو کمزور کرنا۔ اَهْزَلَ القومُ: لوگوں کا لاغر و دبلے جانوروں والا ہونا، اپنے جانوروں کو سختی و تنگی سے روکنا۔ الهُزَال (مص): دبلا پن، لاغری۔ الهَزِيل جمع هَزْلَى: لاغر، دبلا، پتلا۔ الهَزِيلَة جمع هَزَائِل و هَزْلَى: دبلا پن۔ المَهْزُول جمع مَهَازِيل: دبلے پن کا مریض۔ ارضٌ مَهْزُولَةٌ: نرم زمین۔

۲۔هَزَلَ ـهَزْلًا فی کلامه: مذاق و ٹھٹھا کرنا، بکواس کرنا، ہذیان بکنا، بات میں سنجیدہ نہ ہونا۔ هَازَلَ مُهَازَلَةً: ٹھٹھا کرنا، بے ہودگی کرنا۔ ـــ فلانًا: سے مزاح کرنا۔ اَهْزَلَ فلانًا: کو کھلاڑی پانا۔ الهُزَالَة: ظرافت و خوش طبعی۔ کہا جاتا ہے: وقعت بینهما هُزَالَة: دونوں نے ظرافت اور خوش طبعی کی۔ الهَـزَّال و الهَـزِيل: مسخرا بھانڈ۔ الهُزَّيلَى: شعبدہ باز کا فعل۔

۳۔الهَـيْزَلَة: جھنڈا۔ کہا جاتا ہے: ساروا و فیهم هیزلة: انہوں نے جھنڈا لے کر کوچ کیا۔

۴۔هَـزْلَجَ هَزْلَجَةً: جلدی کرنا۔ الهِـزْلَاج جمع هَزَالِج: تیز رفتار، سبک چال۔ (ح): بھیڑیا۔ الهَزْلَجَة (مص): آوازوں کا اختلاط (ملا جلا ہونا)۔ جلدی۔

ⓒ هَزَلَ ـهَزْلًا و هُزْلًا و هَزِلَ ـهَزْلًا و هُزِل: لاغرو دبلا پتلا ہونا، کمزور ہونا، وزن کھونا۔ هَـزَلَ ـهَـزْلًا: مذاق کرنا، مذاقیہ یا غیر سنجیدہ باتیں کرنا۔ ـــ ہ: کو کمزور کرنا، دبلا پتلا کرنا، نحیف کر دینا۔ هَزَّلَ ہ: کو دبلا کرنا، لاغر کرنا، نحیف کرنا، کمزور کرنا، گھلانا۔ هَـازَلَ ہٗ: سے مذاق کرنا، سے یونہی کچھ کہہ دینا۔ اَهْـزَلَ ہٗ: کو لاغر کرنا، دبلا کرنا، کمزور کرنا، نحیف کرنا، گھلانا۔ اِنْهَزَلَ

کمزور ولاغر ہونا۔ هَزَل: مذاق، مزاح، دل لگی، تفریح،
ہنسی مذاق۔ هَزْلِی: مضحکہ خیز، ہنسی کا، ظریفانہ، دلچسپ
عجیب، خوش طبع، تمسخرانہ، تفنن آمیز، مزاحیہ۔ روایۃ
هزلیہ یا هَزْلِیَة: طربیہ، بزمیہ تمثیل۔ هَزِل: مسخرا،
بھانڈ، ظریف، ہزل گو، خوش طبع، بذلہ سنج۔ هَـزِیـل:
کمزور، لاغر، دبلا پتلا۔ مَهْزَلَة جمع مَهْزَلات و
مَهَازِل: طربیہ تمثیل (comedy)، هَازِل: مذاق
کرنے والا، ہنسوڑ، دل لگی باز، مضحکہ خیز، ہنسانے والا،
خوش طبع، دلچسپ، مسخرا، بھانڈ، ہزل گو، بزلہ سنج۔
صُحُفٌ هَازِلَة: مزاحیہ رسالے۔ مَهْزُول: کمزور،
لاغر، دبلا پتلا، اترا ہوا (منہ)، نحیف نزار۔
هزم: ا۔ هَزَمَ۔ هَزْمًا العدوَّ: دشمن کو شکست دینا۔ له
حقَّهُ: کے حق کو ہضم کرنا، گم کرنا۔ فُلَانًا: کو قتل کرنا،
کو ایسی ضرب لگانا کہ سینہ میں گھس جائے اور ناف نکل
آئے۔ الشیءَ: کو ہاتھ سے دبا کر گڑھا ڈالنا۔
البئرَ: کنواں کھودنا۔ ت القوسُ: کمان کا آواز
دینا۔ هُزُومًا اللیلُ: صبح کی سفیدی کا ظاہر ہونا۔
هُزِمْتُ علیه: سے ہمدردی کرنا۔ هَزَّمَ العدوَّ:
دشمن کو شکست فاش دینا۔ تَهَزَّمَ ت القربةُ: مشک کا
خشک ہوکر پھٹنا۔ البناءُ: عمارت کا گرنا، ڈھے جانا۔
ت القوسُ: کمان کا آواز دینا۔ اسی طرح لاٹھی
اور گرج کا آواز دینا۔ تِ السحبُ بالماء: بادل
کا گرج کر بہت برسنا۔ اِنْهَزَمَ: شکست کھانا۔
الجیشُ: لشکر کا شکست کھانا۔ ت العصاءُ: لاٹھی
کا آواز کے ساتھ پھٹنا، ٹوٹنا۔ اِهْتَزَمَ الشاةَ: بکری کو
ذبح کرنا۔ تِ السحابةُ بالماءِ: بادل کا گرجکر
بہت برسنا۔ الفرسُ: گھوڑے کے دوڑنے کی آواز
سنائی دینا۔ الشیءَ: کو جلدی سے کرنے لگنا۔ اِسْتَهْزَمَ
الجیوشَ: فوجوں کو شکست دینا، ان کی شکست چاہنا،
کو شکست خوردہ پانا۔ الهازمة جمع هَوَازِم: مصیبت۔
الهَزْم (مص) جمع هُزُوم: پست زمین۔ پانی
سے خالی پتلا بادل۔ الهَزَم: کمان کی آواز۔ الهَزِم
من الخیل: مطیع گھوڑا۔ فرسٌ هَزِم و فرسٌ هَزِم
الصوت: گرج کے مشابہ آواز والا گھوڑا۔ غیثٌ
هَزِمٌ: دھواں دار بارش۔ قِدْرٌ هَزِمَةٌ: بہت ابلنے والی
ہانڈی۔ الهَزْمَة جمع هَزْم و هُزُوم و هَزَمَاتٌ:
اسم مرة، پست زمین، گڑھا جو ہاتھ کے دبانے سے
سینے یا سیب میں پیدا ہو جائے، سینہ کا گڑھا، ہنسلی کی
ہڈیوں کے درمیان کا گڑھا۔ هُزُومُ الجوف: پیٹ
میں کھانے اور پانی کی جگہ۔ الهَزُوم: آواز دینے والی
کمان۔ قوس هَزُوم بَيِّنَةُ الهزم: واضح آواز دینے
والی کمان۔ الهَزِیم: گرج کی آواز، گرج، سخت آواز
والا گھوڑا۔ جیشٌ هَزِیمٌ: شکست خوردہ لشکر۔ غیثٌ
هَزِیمٌ: نہ تھمنے والی بارش۔ الهَزِیمَة: شکست۔
هَزَائِم کا واحد یعنی بہت پانی والا کنواں۔ هَزِیمَةُ
الفرسِ: تیز دوڑنے پر گھوڑے کا پسینہ بہنا۔ الهَزِیمَی:
شکست۔ الهَیْزَم: بہت سخت۔ (ح) شیر۔ المُتَهَزِّم
(فا): گرج، رعد۔ قصبٌ مُتَهَزِّمٌ مُهَزَّم: ٹوٹا اور
پھٹا ہوا نرکل۔ سقاءٌ مُتَهَزِّمٌ و مُهَزَّمٌ: خشک ہونے
کی وجہ سے چنت ڈلی مشک۔
۲۔ المِهْزَام جمع مَهَازِیم: آگ ہلانے کی لکڑی،
چھڑی۔ لکڑی جس کے سرے پر آگ لگا کر بچے کھیلتے
ہیں۔
○ هَزَمَ۔ هَزْمًا ہ: کو بھگا دینا، کو ہرانا، شکست دینا، پر
غالب آنا، فتح پانا، کو بے کار کر دینا، کو بے اثر کر دینا، کو
غیر جانب دار بنا دینا، کو طرف داری سے باز رکھنا۔
اِنْهَزَمَ: شکست کھانا، ہار جانا، بھگایا جانا۔ هَزْم:
غالب آنا، فتح پانا، شکست دینا، شکست، ہار۔ هَزِیم:
گرج کی آواز، بادل کی گرج، گڑگڑاہٹ، گڑگڑانا،
رعد، کڑک، گھڑ گھراہٹ، فرار ہونے والا، بھاگا ہوا،
مفرور بگوڑا، بھاگتا ہوا۔ هَزِیمَة جمع هَزَائِم:
شکست، ہار۔ رُوحُ الهَزِیمَة: شکست پسندی، شکست
خوردگی، احساس کمتری و کمزوری۔ اِنْهِزَام: شکست
سے دوچار ہونا، شکست، محرومی، ناکامی، مایوسی، غیر
منظم فرار۔ اِنْهِزَامِی جمع انهزامیون: شکست
خوردہ، ذہنیت کا مالک، شکست مان لینے والا، قوم کو
شکست تسلیم کر لینے کی دعوت دینے والا۔ اِنْهِزَامِیَة:
ہزیمت پسندی، شکست خوردگی۔
هس: ا۔ هَسَّ۔ هَسًّا الشیءَ: کو کوٹنا، توڑنا۔
هَسًّا: دل میں بات کرنا۔ الکلامَ: بات چھپانا۔
الهَسِیس: پوشیدہ کلام، سرگوشی، ریزہ ریزہ شدہ۔ هَسِیسُ
الجِنِّ و هَسَلُها: بیابان میں جنوں کی آواز، سرسراہٹ۔
۲۔ هَسْهَسَ هَسْهَسَةً الدرعَ او الحلیَ: زرہ یا زیور کا
جھنکارنا۔ الحدیثَ: بات کو پوشیدہ رکھنا۔
الماءُ: پانی کا لگاتار بہنا۔ تَهَسْهَسَ الدرعُ او
الحلیُ: زرہ یا زیور کا جھنکارنا۔ الهَسَاهِس: رات کو
چلنا۔ هَسَاهِسُ الناسِ: لوگوں کا پوشیدہ کلام۔
الهَسْهَسَة (مص): زرہ و زیور وغیرہ کی جھنکار،
پوشیدہ آواز والی چیز۔ الهَسْهَاس: غیر مفہوم کلام،
وسوسہ، دل کی بات، تمام رات بکریاں چرانے والا
چرواہا، کام کیلئے تمام رات جاگنے والا، قصائی۔
○ هَسَّ۔ هَسًّا: سرگوشی کرنا، زیر لب بولنا، کان میں کہنا۔
هَسّ: سرگوشی، کاناپھوسی، خودکلامی۔ هُسّ: خاموش
چپ۔ هَسِیس: سرگوشی، سرگوشی کی آواز۔ هِسْتُولُوجِیا:
histology۔ هِسْتِیرِیا و هِیسْتِیرِیا: اختناق
الرحم، اعصابی تناؤ، ہسٹیریا۔ هِسْتِیرِی: باؤ گولے کی
مریضہ، ہسٹیریائی، ہسٹیریا سے متاثر۔
هش: ا۔ هَشَّ۔ هَشًّا ورقَ الشجرِ: لاٹھی سے درخت
کے پتے جھاڑنا۔ هَشَاشَةً و هَشَاشًا: مسکرانا،
خوش ہونا، اچھے کام کے لئے مستعد ہونا، سرگرم ہونا،
(پر) مہربان ہونا۔ کہا جاتا ہے: هَشِشْتُ و هَشَشْتُ
بفلان و لفلان و اَهِشُّ و اَهَشُّ به و له میں
فلاں سے خوش ہوا۔ هُشُوشَةً الخبزُ: روٹی کا
نرم ہونا۔ الرجلُ: سست و کمزور ہونا۔ هَشَاشَةً
و هُشُوشًا العودُ: لکڑی کا جلد ٹوٹنے والا ہونا۔
الشیءُ: نرم اور ڈھیلا ہونا۔ صفت: هَشّ۔ هَشَّشَ
ہ: کو کمزور پانا، کو خوش کرنا۔ اِهْتَشَّ لکذا: پر خوش
ہونا، کا خواہش مند ہونا۔ فلانٌ بی: فلاں شخص مجھ
سے خوش ہوا۔ اِسْتَهَشَّ ہ: کو ہلکا سمجھنا۔ الهَشّ
(مص): نرم، ڈھیلا۔ فلانٌ هَشُّ المکسرِ: فلاں
مہربان، نرم خو ہے۔
○ کہا جاتا ہے۔ فلانٌ هَشُّ الوجهِ: فلاں ہنس مکھ
ہے۔ فرسٌ هَشٌّ: بہت پسینہ والا گھوڑا۔ فرس هش
العنان: نرم لگام والا گھوڑا۔ انا به هَشٌّ بَشٌّ: میں اس
سے بہت خوش ہوں۔ خُبْزَةٌ هَشَّةٌ: نرم روٹی۔ خبز
هَشَاش: نرم روٹی۔ قربةٌ هَشَاشَةٌ: ٹپکنے والی
مشک۔ ناقةٌ هَشُوش و شاةٌ هَشُوش: بہت دودھ
والی اونٹنی یا بکری۔ الهَشِیش: خشک گھاس، نرم مان
لینے والا، سوال کئے جانے پر خوش ہونے والا۔
۲۔ هَشْهَشَ الشیءَ: کو حرکت دینا۔ الهَشْهَاش: خوش
خلق، سخی۔
○ هَشّ۔ هُشُوشَةً: (روٹی کا) خستہ ہونا۔ هَشَاشًا
و هَشَاشَةً: خوش دل ہونا، خوش باش وضع قطع یا چال
ڈھال کا اظہار کرنا، مسکراہٹ کا اظہار کرنا۔ ل/ب:
پر مسکرانا، یا کو پسند کرنا، سے شائستہ اور دلکش انداز سے
ملنا، کا مہربانی سے استقبال کرنا۔ ل: پر یا کی وجہ سے
خوش ہونا، مسرور ہونا۔ ـ ہ: ٹہنیاں وغیرہ اڑانا۔
ـ ہ علی: مویشیوں کے لئے پتے جھاڑنا۔ هَشَّشَ
ہ: کا جی خوش کرنا، میں جان ڈالنا، کی ہمت بڑھانا، کا
حوصلہ بلند کرنا۔ هَشّ: نازک، کمزور، جلدی ٹوٹ
جانے والا، خستہ، بے لوچ، ریزہ ریزہ ہو جانے والا،
نرم، بھر بھرا، تازہ و نرم، خوش نشاط افزا، فرحت بخش،
چست و چالاک، تیز پھرتیلا، خوش طبع، زندہ دل، تیز

طرار، سرگرم جوشیلا، زوردار۔ هَشَّاش: نرم، ریزہ ریزہ ہو جانے والا، بھربھرا، خستہ، جو بآسانی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ هَشِيش: نرم۔ هَشَاشَة: خوش طبعی، شگفتہ مزاجی، خوشی، شادمانی، خوش مزاجی، زندہ دلی۔ هَاشّ: خستہ، خوش دل، خوش وخرم، زندہ دل، روشن چہرے والا، خوش، شاد، فرحت بخش، زندہ دل، روح پرور، خوش مزاج۔ هاش باش: خوش وخرم، مسرور۔ هُسْ: خاموش یا چپ!

هشر: هَشَرَ ۔هَشْرًا الناقةَ: اونٹنی کا سب دودھ دوہنا۔ الهَشْر (مص): ہلکاپن، پتلاپن۔ الهَشْرَة: تکبر، غرور۔ شجرةٌ هَشِرَةٌ و هَشُور: وہ درخت جس کے پتے جلد گر جائیں۔ الهَيْشَر من الرجال: نرم، کمزور اور لمبا آدمی۔

هشل: هَشَلَ تَهْشِيلًا ت الناقةُ: اونٹنی کا تھوڑا دودھ اتارنا۔ عام لوگ کہتے ہیں هَشَلَهُ فَهَشَلَ: اُس نے اسے بھگا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ أَهْشَلَ الرجُلَ: مالک کی اجازت کے بغیر سواری کا جانور کسی کو دینا۔ إِهْتَشَلَ الفرسَ: گھوڑے پر مالک کی اجازت کے بغیر سوار ہونا۔ الهَشِيلَة: وہ سواری کا جانور جس پر مالک کی اجازت کے بغیر سوار ہوں ــــ من الابل و غيرها: غصب کیا ہوا اونٹ وغیرہ۔ الهَيْشَلَة: عمر رسیدہ موٹی اونٹنی۔

هشم: هَشَمَ ۔هَشْمًا الشيءَ: کو توڑنا۔ هَشَمَ الثريدَ لقومه: اپنی قوم کے لئے روٹی کو ریزہ ریزہ کر کے اور شوربے میں بھگو کر ثرید بنانا۔ صفت: هَاشِم۔ هَشَّمَ الشيءَ: کو بہت توڑنا ــــ الناقةَ: اونٹنی کو دوہنا ــــ فُلانًا: کا اکرام و تعظیم کرنا۔ تَهَشَّمَ الشيءُ: چیز کا ٹوٹنا ــــ الشجرُ: درخت کا سوکھ کر ٹوٹنا ــــ فلانٌ الشيءَ: چیز کو توڑنا ــــ ت الارضُ: بارش رک جانے سے زمین کا خشک ہو جانا۔ الناقةَ: اونٹنی کو دوہنا ــــ الابلُ: اونٹوں کا سست و کمزور ہونا ــــ الرجُلَ: کی تعظیم و تکریم کرنا۔ زيدًا: زید کو مہربان بنانا، رضامند کرنا ــــ علی فلان: پر مہربان ہونا۔ کہا جاتا ہے تَهَشَّمَهُ للمعروف: سے بھلائی طلب کرنا۔ اِنْهَشَمَ الشيءُ: چیز کا ٹوٹنا ــــ ت الابلُ: اونٹوں کا سست و کمزور ہونا۔ اِهْتَشَمَ الناقةَ: اونٹنی کو دوہنا۔ کہا جاتا ہے اِهْتَشَمْتُ نفسي له: میں نے بیدلی سے اس کے لئے کام کیا۔ الهَاشِمَة: ہاشم کا مؤنث۔ ہڈی توڑ ضرب۔ الهَشْم (مص) جمع هُشُوم: قحط زدہ زمین، پست زمین۔ الهَشِم: فیاض، سخی۔ الهُشَّم: دودھ کے ماہر دوہنے والے (اس کا مفرد هاشم ہے)، نرم پہاڑ۔ الهَشْمَة: هشم کا اسم مرّة۔ الهَشَمَة جمع هَشَمَات (ح): پہاڑی بکری۔ الهِشَام: سخاوت۔ الهَشِيم: ٹوٹا ہوا، خشک، ٹوٹے ہوئے پودے، خشک گھاس، خشک درخت۔ نبتٌ هشيم: پہلے سال کی باقی ماندہ گھاس۔ کہا جاتا ہے صارت الارض هشيما: زمین کے درخت اور گھاس خشک ہو گئے اور ٹوٹ گئے۔ کمزور جسم والا۔ کہا جاتا ہے رجُلٌ هَشِيم: کمزور جسم والا آدمی۔ الهَشِيمَة: زمین جس کے درخت سوکھ گئے ہوں، خشک درخت۔ كلاءٌ هَيْشُوم: نرم و بھربھرا گھاس۔ ناقة مِهْشَام: جلد لاغر ہونے والی اونٹنی۔

○ هَشَمَ ۔هَشْمًا و هَشَّمَ هٗ: کو تباہ کرنا، کو پاش پاش کرنا، توڑ پھوڑ ڈالنا، کچل ڈالنا۔ تَهَشَّمَ و اِنْهَشَمَ: تباہ ہونا، پاش پاش ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ جانا۔ هَشِيم: کمزور، جلدی ٹوٹ جانے والا، خشک ڈنٹھل، ڈنڈیاں، بھوسا، تنکا، پیال، بھوسی، چوکر۔ هاشمی: ہاشمی، ہاشمی قبیلہ کا۔ مُهَشَّم: تباہ شدہ (شہر)، کچلا ہوا، پسا ہوا۔

هشو: هَاشَى مُهَاشَاةً هٗ: سے مذاق کرنا، مزاح کرنا۔

هصّ: ۱۔هَصَّ ۔هَصًّا الشيءَ: کو روند کر کچلنا، توڑنا، باریک کرنا، کو انگلیوں سے زور سے دبانا۔ صفت مفعولی: هَصِيص و مَهْصُوص۔ الهَصّ (مص): ہر سخت چیز۔ الهصيص: روندی ہوئی، کچلی ہوئی (چیز)۔

۲۔هَصَّصَ الرجُلُ: چمکیلی آنکھوں والا ہونا۔ الهَاصَّة: ہاتھی کی آنکھ۔ هصيصُ النار: آگ کی چمک۔

۳۔هَصْهَصَ هَصْهَصَةً هٗ: کو ہاتھ سے دبانا۔ الهُصْهُص و الهُصَاهِص: مضبوط آدمی یا شیر۔

۴۔الهَصْهَاص: چمکیلی آنکھوں والا۔ المُهَصْهِصَة: چوروں کا خاص طور پر رات کے وقت جاسوس۔

هصب: هَصَبَ ۔هَصْبًا: بھاگنا، فرار ہونا۔

هصر: هَصَرَ ۔هَصْرًا الشيءَ و بالشيءِ: چیز کو کھینچنا اور جھکانا ــــ الغُصنَ و بالغُصنِ: شاخ کو جھکانا یا موڑ کر بغیر الگ کرنے کے توڑنا ــــ الشيءَ: کو توڑنا، ہٹانا، قریب کرنا ــــ قِرنَهٗ: ہمسر کو دبانا ــــ الاسدُ فريستَهُ: شیر کا اپنے شکار کو توڑنا، ادھیڑنا۔ تَهَصَّرت اَغْصَانُ الشجرة: درخت کی ٹہنیوں کا جھکنا، لٹکنا۔ اِنْهَصَرَ: جھکنا، کھنچ جانا، مڑنا، ٹوٹنا۔ اِهْتَصَرَ: جھکنا، کھنچ جانا، مڑنا، ٹوٹنا ــــ الغصنَ: شاخ کو اپنی طرف کھینچنا، جھکانا ــــ النخلةَ: کھجور کا خوشہ درست کرنا۔ الهَاصِر (ح): شیر۔ الهُصَر: شیر۔ رجُلٌ هُصَرٌ: ہمسر کو بہت دبانے والا۔ الهَصْر و الهَصُور و الهُصَرَة و الهَصُورَة و الهَيْصَر و اهْصُور و الهُصَرَة و الهَصُورَة و الهَيْصَر و الهَيْصَار و الهَيْصُور و الهَصَّار و المِهْصَر و المِهْصَار و المِهْصِير و المُهْتَصِر (ح): شیر۔ الهَصْرَة و الهَصَرَة: گھونگا جو تعویذ کے طور پر پہنا جائے۔ الهَوَاصِر و الهَوَاصِير: شکار کو پھاڑنے والے شیر، یہ هَصُور کی جمع ہے۔

○ هَصَرَ ۔هَصْرًا هٗ: (شاخ، ٹہنی) کو اپنی طرف کھینچنا، جھکانا ــــ هٗ: میں گڑھا، دراز یا دراڑ ڈالنا، شگاف کرنا، کو تڑقانا، توڑنا۔ هَصُور: شیر کا لقب۔

هصم: هَصَمَ ۔هَصْمًا هٗ: کو توڑنا۔ نابٌ هَيْصَمٌ: ہر چیز کو توڑنے والا دانت۔

هصو: هَصَا يَهْصُو هَصْوًا الرجُلُ: بوڑھا ہونا۔ هَاصَى مُهَاصَاةً هٗ: کی پیٹھ توڑنا۔ الأَهْصَاء: مضبوط لوگ۔

هضّ: هَضَّ ۔هَضًّا الشيءَ: کو توڑنا، باریک کرنا۔ صفت مفعولی هَضِيض و مَهْضُوض ــــ ت الإبلُ: اونٹوں کا تیز چلنا ــــ فلانٌ المشيَ: خوبصورت چال چلنا ــــ فُلانًا: کو ترغیب دینا۔ هَضْهَضَ: زمین پر زور سے پاؤں مارنا۔ اِنْهَضَّ الشيءُ: ٹوٹنا۔ اِهْتَضَّ الشيءَ: کو توڑنا۔ کہا جاتا ہے اِهْتَضَّ نفسَهُ لفلان: وہ فلاں کے سامنے تابعدار ہو گیا، اور بے دلی سے راضی ہو گیا۔ الهَضَض: شکستگی، ٹوٹ پھوٹ۔ الهَضَّاء: آدمیوں کی جماعت، گھوڑوں کا گلہ۔ الهَضَّاض: مبالغہ کا صیغہ۔ فَحْلٌ هَضَّاضٌ: جوانوں کی گردن توڑنے والا جوان۔

○ هَضَّ ۔هَضًّا: تیز چلنا، تیز تیز چلنا، آگے بڑھنا، ترقی کرنا۔

هضب: هَضَبَ ۔هَضَبَاتِ السماءُ: آسمان کا برسنا ــــ ت السماءُ القومَ: بارش کا لوگوں کو بالکل بھگو دینا ــــ القومُ في الحديث: زور زور سے باتیں کرنا۔ کہا جاتا ہے اهضبوا يا قوم: لوگو باتیں کرو، بولو۔ أَهْضَبَ القومُ: پہاڑوں کی چوٹیوں پر اترنا۔ اِسْتَهْضَبَ الجبلُ: پہاڑ کا زمین پر پھیلا ہوا ہونا۔ الهَضْبَة جمع هِضَب و هُضُب و هِضَاب و هَضَبَات و جج أَهَاضِيب: زمین پر پھیلا ہوا پہاڑ، بلند پہاڑ، بلند زمین، بارش کی بوچھاڑ۔ رجُلٌ هَضْبَةٌ: باتونی آدمی۔ الهِضَب: بہت سخت، بہت پسینہ بہانے والا گھوڑا۔ غنمٌ هَضِبٌ: کم دودھ کی بکری۔ الأُهْضُوبَة جمع أَهَاضِيب من المطر: بارش کی بوچھاڑ۔ روضة مَهْضُوبَةٌ: بارش سے بھیگا ہوا سبزہ زار۔

۲۔هَضَبَ -هَضْبًا الرجُلُ: بے وقوف کی طرح چلنا۔ ⊙ هَضَبَ -هَضَبًا: لفاظی والا ہونا، باتونی ہونا۔هَضْبَة جمع هِضَاب: پہاڑی، پہاڑ، بلندی، چڑھائی۔

هضج: هَضَجَ السواشیَ: مویشیوں کو اچھی طرح نہ چرانا۔صِبیانٌ هَضِیجٌ: چھوٹے بچے (اس کا مفرد نہیں آتا)۔

هضل: هَضَلَ -هَضْلاً بالشعر او بالكلام: شعر یا کلام بہت کہنا۔أَهْضَلَ تِ السماءُ: بارش برسنا۔ ـــ ت الدلوُ: ڈول کا کنویں کی دیوار سے ٹکرا کر پانی سے بھر جانا۔الهَضْل (مص) بہت۔الهَضْلاء: لمبے پستان والی عورت۔الهَضّال: بدی خواں۔الهَیْضَل: ہتھیار بند جماعت، بڑی فوج۔جمل هَیْضَل: موٹا، بڑا لمبا اونٹ۔الهَیْضَلَة: ادھیڑ عمر کی عورت، ہتھیار بند جماعت، لوگوں کی آوازیں۔ ـــ من النوق: موٹی لمبی اونٹنی، بوڑھی اونٹنی، زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی۔

هضم: هَضَمَ -هَضْمًا ت المعدةُ الطعامَ: معدے کا خوراک کو ہضم کرنا۔ ـــ الشیء: کو توڑنا۔ ـــ فلانًا: پر ظلم کرنا، کو غصب کرنا۔اسم الهضیمة۔ ـــ هٗ حقهٗ: کے حق کو کم کرنا۔ ـــ له من حقه شیئًا: کو اپنے حق میں سے کچھ بخوشی دینا۔ ـــ لهٗ من ماله: کو اپنے مال میں سے دینا۔ ـــ علی القوم: پر حملہ کرنا، کے پاس اچانک آنا۔کہا جاتا ہے: ما شعروا بنا حتی هَضَمْنا علیهم: انہیں پتہ نہیں چلا حتی کہ ہم اچانک ان کے پاس آدھمکے۔ماهضم علیه: وہ اس کے قریب نہیں آیا۔هَضِمَ -هَضَمًا: نازک و پتلی کمر والا ہونا۔صفت مذکر: أَهْضَمُ۔ صفت مؤنث: هَضْمَاء جمع هُضْم۔ کہا جاتا ہے: فی کَشْحِهِ هَضَمٌ: وہ موٹا نہیں، یا کہ اس کی کمر پتلی ہے۔ ـــ ت الخیلُ: گھوڑے کا چھریرے بدن والا ہونا۔تَهَضَّمَ هٗ: پر ظلم کرنا، کو لوٹ لینا، کو ذلیل و خوار کرنا، کو توڑنا۔ ـــ للقوم: قوم کا مطیع ہونا۔کہا جاتا ہے: تَهَضَّمْتُ له نفسی: میں بے دلی سے اس سے راضی ہوا۔اِنْهَضَمَ الطعامُ: کھانا ہضم ہونا (کہا جاتا ہے: هذا طعام سریع الانهضام: یہ جلد ہضم ہونے والا کھانا ہے)۔ ـــ الشیءُ: مل جانا۔اِهْتَضَمَ هٗ: پر ظلم کرنا، کو لوٹ لینا، کا حق کم کرنا۔الهَاضِم (فا): شیءٌ هاضِم: نرم چیز۔الهَاضِمَة: هاضم کا مؤنث، قوت ہاضمہ۔الهَاضُوم: ہاضم دواء، اپنا مال خرچ کرنے والا، (ح): شیر۔الهَضْم (مص): غذا کا جزو بدن ہونا۔ ـــ والهِضْم جمع أَهْضَام و هُضُوم: پست زمین، بطنِ وادی۔ ـــ والهَضَم الهَضْمَة: ایک قسم کی دھونی۔الهَضَّام: مبالغہ کا صیغہ، غذا کو ہضم کرنے والی دواء۔الأَهْضَم م هَضْمَاء جمع هُضْم: موٹے دانتوں والا۔أَهْضَمُ الكَشْحَین: پتلا دبلا، نازک بدن۔الهَضُوم جمع هُضُم: کھانے ہضم کرنے میں ممد۔یدٌ هَضُوم: فیاض ہاتھ، سخی ہاتھ۔کہا جاتا ہے: فتیانٌ هُضُمٌ: مال خرچ کرنے والے نوجوان۔رجُلٌ هَضُومُ الشتاء: سردیوں میں مال خرچ کرنے والا۔الهَضِیم: ہضم کیا ہوا، حقوق میں ظلم کیا ہوا۔امرأةٌ هَضِیمٌ: پتلی کمر والی عورت۔بطنٌ هَضِیمٌ: خالی پیٹ پتلا دبلا پیٹ۔قصبة هَضِیمٌ: بانسری۔الهَضِیمَة جمع هَضَائِم: میت کا کھانا، ظلم، غصب۔المَهْضُومَة: ایک مخلوط خوشبو۔قَصَبَةٌ مَهْضُومَةٌ و مُهَضَّمَةٌ: بانسری۔کہا جاتا ہے: رأیتُهُ مُتَهَضِّمًا: میں نے اس کو غم سے نڈھال چہرے والا دیکھا۔

⊙ هَضَمَ -هَضْمًا هٗ: کھانا ہضم کرنا، تحلیل کرنا، پچانا (پیٹ کا)۔ ـــ هٗ: پر ظلم کرنا، کو خوفزدہ کرنا، پر ناجائز دست اندازی کرنا، کی ہتک کرنا، سے بے انصافی کرنا، کو برداشت کرنا، جھیلنا۔ ـــ هٗ: کو گوارہ کرنا، برداشت کرنا۔اِنْهَضَمَ: ہضم ہونا۔اِهْتَضَمَ هٗ: پر ظلم کرنا، سے ناانصافی کرنا۔هَضْم: قوت ہضم، ہاضمہ، صبر۔هضم الجانب: برداشت، صبر، فرمانبرداری، اطاعت، بخشش، عفو و کرم۔سهلُ الهضم: بآسانی ہضم ہونے والا، ہلکا۔هَضْمِی: ہضم میں معاون، ہاضم، معاونِ ہضم، غذائی۔هَضُوم: قابل ہضم، قابل برداشت، موافق، خوشگوار، صحت بخش۔هَضِیم: ہضم شدہ، قابل ہضم، مظلوم، خوف زدہ، جس سے ناجائز دست اندازی کی گئی ہو، نازک، پتلا دبلا۔هَضِیمه: دست اندازی، تاخت، یورش، دست درازی، بے انصافی، ظلم، ظلم و ستم، جبر، تعدی جور و جفا۔انهضام: قوت ہضم، ہاضمہ، ہضم کی قابلیت۔مَهْضُوم: ہضم شدہ، قابل ہضم، مظلوم، خوف زدہ، ناجائز دست اندازی کیا ہوا۔

هضو: هَاضَی مُهَاضَاةً هٗ: کو بے وقوف جاننا، حقیر جاننا۔الهَضَاة: گیسو (ح) گدھی۔الأَهْضَاء: لوگوں کی جماعتیں۔

هطّ: هَطْهَطَ الفرسُ: گھوڑے کا ہنہنانا۔ ـــ الرجُلُ: تیز چلنا۔ ـــ فی العمل: کام میں تیزی کرنا۔الهَطَاهِط (ح): گھوڑا۔

هطر: هَطَرَ -هَطْرًا الكلبَ: کتے کو لکڑی سے مار ڈالنا یا مطلق مارنا (یعنی ضرب لگانا)۔تَهَطَّرَتِ البئرُ: کنویں کا ڈھینا۔ ـــ الرجُلُ: ذلیل ہونا۔الهَطْرَة: اسم مرہ، امیر کے سامنے غریب کی بوقت سوال ذلت۔

۲۔تَهَطْرَسَ الرجُلُ: متکبرانہ چال چلنا۔

هطع: هَطَعَ -هَطْعًا و هُطُوعًا: ڈر سے جلدی جلدی آگے آگے چلنا، ایک ہی طرف ٹکٹکی لگائے ہوئے چلنا۔أَهْطَعَ فی السیر: ڈر سے جلدی جلدی چلنا۔ ـــ البعیرُ: اونٹ کا گردن دراز کر کے جلدی چلنا۔اِسْتَهْطَعَ البعیرُ فی سیره: اونٹ کا دوڑنا۔الهَطِیع: چوڑا راستہ۔ناقة هَطْعَی: تیز رفتار اونٹنی۔المُهْطِع (فا): ذلت و عاجزی سے ایک طرف ٹکٹکی لگانے والا۔

⊙ أَهْطَعَ: چلتے ہوئے گردن باہر یا آگے کو نکالنا۔أَهْطَعَ فی العدو: تیز دوڑنا۔

هطف: هَطَفَ -هَطْفًا الراعی: دودھ دوہنا (چرواہے کا)۔ ـــ ت السماءُ: آسمان کا بارش برسانا۔الهَطِف: شدید بارش۔

هطل: ۱۔هَطَلَ -هَطْلاً و هَطَلانًا و تَهْطالاً المطرُ: بارش کا موسلا دھار اور پیہم برسنا۔صفت هَاطِل مونث هَاطِلَة جمع هُطَّل۔ ـــ الجریُ الفرسَ: دوڑ کا گھوڑے کا پسینہ نکالنا، بہانا۔ ـــ ت العینُ بالدمع: آنکھ کا آنسو بہانا۔ ـــ تِ الناقةُ: اونٹنی کا کمزور رفتار سے چلنا۔ ـــ الرجُلُ: آدمی کا اپنی ضرورت کیلئے پیدل چل کر جانا۔تَهَطَّلَ المطرُ: موٹی موٹی بوندوں کی بارش کا پیہم برسنا۔تَهَاطَلَ القومُ علی كذا: ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔الهَاطِل (فا): گنجان کھیتی۔الهَطْل (مص): لگاتار ہلکی بارش، جھڑی، تھکن۔دِیمَةٌ هُطْلٌ: موٹی موٹی بوندوں کی جھڑی۔الهَطِل: بڑی بڑی بوندوں کی لگاتار بارش۔کہا جاتا ہے: مَطَرٌ هَطِل و سَحاب هَطِل: بڑی بڑی بوندوں کی لگاتار بارش، بڑی بوندیں برسانے والا بادل۔الهَطَّال من المطر و السحاب: زور سے برسنے والی موسلا دھار بارش، بڑی بڑی بوندیں برسانے والا بادل۔دِیمَةٌ هَطْلاء: بڑی بڑی بوندوں والی بارش۔(سحابٌ أهطل: نہیں کہا جاتا۔جس طرح کہتے ہیں: فرس روعاء: (زیادہ حیرت انگیز گھوڑی) مگر گھوڑے کو فرس اروع نہیں کہتے اور جس طرح عورت کو امراة حَسْنَاء: (خوبصورت عورت) کہتے ہیں۔مگر اسی طرح مرد کو رجل احسن نہیں کہتے)۔ناقة هَطْلَی: آہستہ چلنے والی اونٹنی۔کہا جاتا ہے: جشت الظباءُ هَطْلَی: غزال آہستہ چلے۔إبلٌ هُطْلَی و هَطْلَی: بغیر شتربان کے آزاد چھوڑے ہوئے اونٹ۔

۲۔ الهِطل: چور۔ (ح): بھیڑیا، احمق۔ الهَیْطل جمع هَیاطِل و هَیاطِلَة (ح): لومڑی، نمازیوں کی ایک چھوٹی جماعت۔ ماوراء النّهر کا علاقہ، ترکوں یا ہندوستانیوں کی ایک جنس۔ الهَیْطَلة: پیتل یا تانبے کی دیگچی۔ (فارسی لفظ)

۳۔ هَطْلَسَ الشیءَ: تمام چیز لے لینا۔ تَهَطْلَسَ اللصُّ: چور کا حیلہ کرنا۔ ـــ المریضُ من عِلّته: مریض کا مرض میں افاقہ پانا۔ الهَطْلَس و الهُطْلُس: راہزن چور۔ (ح): بھیڑیا، بڑا لشکر۔

هَطَلَ - هَطْلاً و هَطَلاناً و تَهْطالاً و تَهاطَلَ: (بارش کا) موسلا دھار برسنا، زور سے برسنا، بارش کا زوروں سے ہونا یا پڑنا۔ هِطْل: بھیڑیا۔ هُطول الامطار: شدید بارش، موسلا دھار بارش، بوچھاڑ۔ هَیْطل جمع هَیاطلة و هَیاطِل: لومڑ، دوباہ۔

هطو هَطا یَهْطو هَطْواً بکذا: کو پھینکنا۔ الهُطَی: پچھاڑ۔ کشتی لڑنا، سخت جدوجہد، سخت چوٹ۔

هعّ: هَعَّ - هَعّاً و هَعَّة: قے کرنا۔

هفّ: هَفَّ - هَفّاً و هَفیفاً الریحُ: ہوا کا سائیں سائیں کر کے چلنا۔ ـــ الشیءُ: سبک اور چمکدار ہونا۔ ـــ الرجلُ: تیز چلنا۔ عام لوگ کہتے ہیں: هَفَّتْ نفسُهُ اِلی الشیءِ: اس کا دل کسی چیز کی طرف مائل ہوا۔ اِهْتَفَّتْ اُذُنُهُ: کان کا سائیں سائیں کرنا۔ ـــ السرابُ: سراب کا چمکنا۔ کہا جاتا ہے: هَفَّتْ هافَّةٌ من الناس: قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کی جماعت آ گئی۔ الهِفُّ: ہلکا پھلکا آدمی (کہا جاتا ہے رجلٌ هِفٌّ) خالی یا کم شہد کا چھتہ۔ ہر ہلکی کھوکھلی چیز، کھیتی جس کی کٹائی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اس کے دانے بکھر جائیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں۔ واحد هِفَّة: پانی کے بڑے بڑے کالے کیڑے۔ سحابٌ هِفٌّ: پتلا پانی سے خالی بادل۔ شَهْدَةٌ هِفٌّ: بے شہد چھتہ یا کم شہد چھتہ۔ کہا جاتا ہے: ما فی بیتك هُفَّة ولا سُفَّة: تمہارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ الهَفّاف: چمکدار، چمکیلا، چمکنے والا۔ ـــ من الأجنحة: پرواز میں ہلکا پرندہ۔ ـــ من القُمُص: پتلی شفاف قمیص۔ ـــ من الحُمُر: ہلکا، بے پروا گدھا۔ ـــ من الظلال: ٹھنڈا سایہ، گھنا سایہ۔ رجلٌ هَفّافُ القمیص: ہلکا پھلکا آدمی۔ الهَفّافة: شفاف کا مؤنث۔ ریحٌ هَفّافة: خوشگوار یا تیز چلنے والی ہوا۔ الهِفّان: کھوج، نشان۔ کہا جاتا ہے: جاء علی هِفّانه: وہ اس کے نشانات قدم پر آیا۔ جاریةٌ مُهَفْهَفَة: پتلی کمر کی لڑکی۔

۲۔ هَفْهَفَ هَفْهَفَةً الرجلُ: پتلے بدن والا اور نازک اندام ہونا۔ ـــ الشیءَ: چیز کو ہلانا۔ تَهَفْهَفَ الرجلُ: پتلے بدن والا اور نازک اندام ہونا۔ ظلٌّ هَفْهَفٌ: ٹھنڈا سا سایہ جس میں سرد ہوا چل رہی ہو۔ الهَفْهاف: پتلے پیٹ والا، پیاسا۔ ـــ من القُمُص والأجنحة: پتلا شفاف کپڑا، پرندہ۔ ظلٌّ هَفْهافٌ: ٹھنڈا ہوادار سایہ۔ غُرْفَةٌ هَفْهافَةٌ: سایہ دار ٹھنڈا کمرہ۔ المُهَفْهَفُ دم مُهَفْهَفَة: پتلے پیٹ اور باریک کمر والا۔

هَفَّ - هَفیفاً: تیزی سے گزرنا، ناچتے کودتے پھرنا، شعلہ فشاں ہونا، ہلکے سے چھونا۔ ـــ هَفّاً و هَفیفاً: ہوا کا چلنا، ہوا کا سائیں سائیں کرنا، (خوشبو کا) پھیلنا۔ هَفَّتْ نفسُهُ الی: وہ کسی چیز وغیرہ کا مشتاق یا آرزومند ہوا۔ هَفَّ علی بالہ اس کے دل میں اچانک خیال آیا کہ، اس کے دل میں بجلی کی طرح یہ خیال کوندا کہ۔ هِفّ: خالی، سبک سر، بہکا ہوا، بے عقل، بے فکرا، خالی دماغ، باولا، سنکی، خفیف، ہلکا، غیر سنجیدہ۔ هَفّاف: شعلہ فشاں، نور افشاں، چمکتا ہوا، چمکیلا، چلتی ہوئی (ہوا) ہلکا، چھلکا، ناپائیدار، رواں، گذراں، باریک اور شفاف، صاف، چمکدار، جس کے پار نظر آ سکے۔ الهُفوف: سعودی عرب کے ضلع الحسا کا ایک بڑا شہر۔ مِهَفَّة: پنکھا، پردار جھاڑن۔ مَهْفوف: بے فکرا، خالی دماغ، باولا، سنکی، غیر ذمہ دار، ناعاقبت اندیش، لاپرواہ، بے ایمان، بددیانت۔

هَفْهَفَ: چھریرا ہونا، پتلا دبلا ہونا، ہوا میں تیرنا۔ تَهَفْهَفَ: چھریرا ہونا، پتلا دبلا ہونا۔ هَفْهَفَة: (ہوا کی) سائیں سائیں، سرگوشی۔ هَفْهاف: چھریرا، پتلا دبلا، نازک اندام، چھوٹا، تھوڑا، معمولی، کمزور، خوبصورت اور کمزور، نرم ملائم، باریک، چھدری (داڑھی) شفاف، ہلکا، بے وزن، بہتا ہوا، لہراتا ہوا، لہلہاتا ہوا، پھڑ پھڑاتا ہوا، اضطراب میں ادھر ادھر پھرنے والا۔ مُهَفْهَف: پتلا دبلا چھریرا، نازک، نازک اندام، باریک۔

هفت: هَفَتَ - هَفْتاً و هُفاتاً الشیءُ: ہلکے پن سے چیز کا اڑنا، پست ہونا، پتلا ہونا۔ ـــ الرجلُ: ناسمجھی سے بہت بولنا۔ تَهافَتَ علی الشیءِ: پر لگاتار گرنا۔ اس کا اکثر استعمال برائی کے بارے میں ہے۔ یعنی برائی پر گرنا۔ ـــ الفَراشُ علی النارِ: پروانے کا آگ پر گرنا۔ ـــ الناسُ علی الماءِ: لوگوں کا پانی پر بھیڑ کرنا۔ ـــ القومُ: لوگوں کا مر کر گرنا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہو کر گرنا۔ اِنْهَفَتَ الشیءُ: چیز کا پست ہونا، ذلیل ہونا۔ الهَفات: احمق۔ الهَفْت (مص): پست زمین، بہت بے وقوفی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنا۔ ـــ من المطر: جلدی برسنے والی بارش۔ الهَفِیْتَة من الناس: بھوک اور سختی کے مارے ہوئے لوگ۔ المَهْفُوت: متحیر، حیران۔

هَفَتَ - هَفْتاً و هُفاتاً: گرنا، دھڑام سے گرنا، دفعۃً گرنا، بیہودہ ہونا، بیہودہ گفتگو کرنا۔ تَهافَتَ عَلَی: پر جھپٹا مارنا، کی طرف تیزی سے جانا، پر گرنا، میں یکا یک گھس پڑنا، میں یا پر ہجوم کرنا، بھیڑ کرنا، کی بھیڑ لگ جانا، کی طرف مل کر جانا۔ تَهافَت: ایک دوسرے پر الٹ کر یا بری طرح گرنا، ہارنا، ٹوٹ جانا، ہار ماننا، اطاعت قبول کرنا، دھڑام سے گرنا، اعصاب کا ٹوٹنا۔ هَفْتان: کمزور، تھکا ماندہ، خرچ شدہ، کمزور شدہ۔ تَهافُت: گرنا، ٹوٹنا، نقاہت صحت کا گرنا۔ تهافت الاعصاب: اعصابی کمزوری۔ هافِت: غلط (رائے)۔ مَهْفُوت: پریشان، حواس باختہ، حیران۔

هفك: تَهَفَّكَ: مضطربانہ سست چال چلنا۔ المُتَهَفِّك (فا): مضطرب سست رفتار شخص۔ ـــ و المُهَفَّك: بہت غلطیاں کرنے والا، بہت خطائیں کرنے والا، گڑبڑ کرنے والا۔

هفو: هَفا یَهْفو هَفْواً و هَفْوَةً و هَفَواناً: جلدی چلنا۔ ـــ الطائرُ: پرندہ کا پر پھڑ پھڑا کر اڑنا۔ ـــ الرجلُ: پھسلنا، بھوکا ہونا۔ ـــ هَفْواً و هُفُوّاً تِ الریشةُ او الصُّوفَةُ فی الهواءِ: پر یا اون کا ہوا میں اڑ جانا۔ ـــ تِ الریحُ بالصوفةِ: ہوا کا اون کو اڑا لیجانا۔ ـــ الفؤادُ: دل دھڑکنا، کسی چیز کا گرویدہ ہونا۔ ـــ فلانٌ: اوچھا ہونا۔ ـــ الظلیمُ: شترمرغ کا دوڑنا۔ ـــ تِ الریحُ بالمطرِ: بارش کو ہوا کا اچک لینا، اڑا لیجانا۔ کہا جاتا ہے: هَفا القلبُ من الحزن او الطرب: دل کا غم پراگندہ یا خوشی سے قابو میں نہ رہنا۔ هَفِیَ - هَفاءً المالُ: قرض خواہوں کے پاس مال کا ضائع ہونا۔ عام لوگ کہتے ہیں: هَفِیَ فلانٌ هَفاءً: وہ سخت بھوکا تھا۔ هَفیان: بہت بھوکا۔ هافَی مُهافاةً هُ: کو خواہش کی طرف مائل کرنا۔ الهافی (فا): بھوکا۔ الهافِیَة جمع هَوافٍ: حافی کا مؤنث۔ هَوافی الإبل: گم شدہ اونٹ۔ الهَفا: برس کر رک رک جانے والی بارش، جلد گزر جانے والی بارش، آنی جانی بارش۔ الهَفاء: ہوا کا بارش کو اچک لیجانا، غلطی، لغزش۔ الهَفاة: بارش۔ رجلٌ هَفاة: احمق۔ الهَفْوة جمع هَفَوات: لغزش۔ الأهْفاء: بیوقوف لوگ۔

هَفَا ـهَفْواً و هَفوةً و هَفَوَاناً: پھسلنا، بھولنا، سہو کرنا، غلطی کرنا، خطا کرنا، غلط ہونا، بھوک سے کمزور ہونا، بھوکوں مرنا، فاقے کرنا۔ ـــ إلی: کی طرف تیزی سے جانا، کیلئے تیزی سے پہنچنا، کو چھیننے کی کوشش کرنا۔ ـــ ب الی: کو پرا کسانا، کو کچھ کرنے کی ترغیب دینا۔ ـــ هَفْواً و هُفُوّاً: اڑنا، پر پھڑ پھڑانا، ہوامیں تیرنا، دل کا زور زور سے دھڑکنا، بے کلی سے دھڑکنا، پھڑ پھڑانا، جذبات سے پر جوش ہونا، جذباتی ہونا (خصوصاً محبت کی وجہ سے)۔ ـــ إلی: کے لئے خواہش محسوس کرنا، کا مشتاق یا آرزومند ہونا، کی آرزو ہونا، کی آرزو میں مرنا۔ هَفْوَة هَفَوَات: لغزش، غلطی، بھول چوک، سہو، فروگذاشت، خطا، قصور، جرم، گناہ۔ هَافٍ: فاقہ زدہ، فاقہ کش۔ هِکْتَار جمع هِکْتارات: ایک ہزار میٹر مربع زمین، ہیکٹر۔

هق: هَقَّ ـهَقًّا الرجلُ: بھاگنا، بھاگ جانا۔

هقع: ۱۔ هَقَعَ ـهَقْعًا الفرسَ: گھوڑے کو داغ لگانا۔ تَهَقَّعَ الرجلُ علینا: (ہمارے سامنے) بیوقوف بننا، تکبر کرنا، گھنونا کام کرنا۔ الهَقْعَة: هقع کا اسم مرۃ۔

۲۔ تُهُقِّعَ: اوندھا ہونا۔ إنهَقَعَ الرجلُ: بہت بھوکا ہونا۔ إهْتُقِعَ ت الحُمّیٰ فلاناً: کو بخار ایک دن چھوڑ کر چڑھنا۔ ـــ الشيءُ فلاناً: چیز کا کسی کے پاس لوٹ آنا۔ أُهْتُقِعَ لونُهُ: کا خوف یا گھبراہٹ سے رنگ تبدیل ہوجانا۔ الهُقَاع: غم یا بیماری سے پیدا شدہ غفلت

۳۔ إهْتَقَعَ هُ: کو روکنا، منع کرنا۔ کہا جاتا ہے: اهتقع فلاناً عِرقُ سوءٍ: فلاں کو اس کی بداصلی نے شرف اور بھلائی تک پہنچنے سے روک دیا۔ الهَقِع م هَقِعَة: حریص۔

۴۔ الهَقْعَة: گھوڑے کے سینے کے وسط میں دائرہ (فلک)، جوزاء کے پہلو پر تین پتھروں کے چولہے کی طرح ایک دوسرے کے قریب تین چمکدار ستارے۔ الهُقَعَة: لوگوں کے درمیان بہت ٹیک لگانے یا لیٹنے والا۔ الهَيْقَعَة: تلواروں کی کھٹا کھٹ، جھنکار۔ (کہا جاتا ہے: سمعتُ للسیوف هَيْقَعَةً: میں نے تلواروں کی کھٹا کھٹ یا جھنکار سنی) آواز سننے کے لئے خشک چیز کو خشک چیز پر مارنا یا لوہے کو پتھر سے مارنا۔ المهقوع من الخیل: وسط سینہ پر دائرہ رکھنے والا گھوڑا۔

هقل: الهَاقِل (ع): چوہا۔ الهِقْل م هِقْلَة: جوان شتر مرغ، لمبا بے وقوف۔ الهَقِل: بھوکا۔ الهَيْقَل: جوان شتر مرغ، گودھ۔ الهَيْقَلَة: ایک قسم کی چال۔ کہا جاتا ہے: اخذ یمشی الهیقلة: وہ ایک طرح کی چال چلنے لگا۔

هقم: هَقِمَ ـهَقَمًا: سخت بھوکا ہونا۔ صفت: هَقِم بہت کھانے پر بھی بدہضمی میں مبتلا نہ ہونا۔ تَهَقَّمَ هُ: کو مغلوب کرنا۔ ـــ الطعامَ: کھانے کو برابر بڑے بڑے لقموں سے نگلنا۔ الهِقَمُّ: سمندر، پیٹو، بسیار خور۔ الهَيْقَمُ: کشادہ سمندر، سمندر کا شور۔

هقي: هَقَى يَهْقِي هَقْيًا: بکواس کرنا۔ (کہا جاتا ہے: فلانٌ يَهْقِي بفلان: فلاں شخص، فلاں شخص کے ساتھ بیہودہ گوئی کرتا ہے)۔ ـــ فلاناً: کو دشنام دینا۔ ـــ فؤادُهُ: کا دل دھڑکنا، گرویدہ ہونا۔ أَهْقَى إهْقاءً هُ: کو خراب کرنا۔

هك: هَكَّ ـهَكًّا: گوز کرنا۔ ـــ الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ ـــ النعامُ: شتر مرغ کا پاخانہ کرنا۔ ـــ اللبنَ: دودھ نکالنا۔ ـــ الشيءَ: کو پیسنا۔ (پسی ہوئی چیز: مَهْكُوك اور هَكِيك)۔ ـــ هُ بالرمح: کو متواتر نیزہ مارنا۔ ـــ هُ بالسیف: کو تلوار مارنا۔ ـــ النبیذُ فلاناً: کو نبیذ کا متوالا کرنا۔ ـــ فلاناً: کو لاغر و دبلا کرنا۔ ـــ النجّارُ الخرقَ: بڑھئی کا سوراخ کو وسیع کرنا۔ ـــ تِ البئر: کنویں کا ڈھینا۔ هُكَّ الشيءُ: چیز کا گرایا جانا۔ تَهَكَّكَ الرجلُ: مضطرب ہونا۔ ـــ ت الأُنثَى: مادہ کے جننے کا وقت قریب آنا اور اس کے تھن کا بڑا ہوجانا۔ إنهَكَّ البعیرُ: اونٹ کا بیٹھتے وقت زمین سے چمٹ جانا۔ ـــ الرجلُ: نبیذ سے مست ہونا۔ ـــ تِ البئرُ: کنویں کا ڈھے جانا۔ کہا جاتا ہے: ما ينهكّ يفعل كذا: وہ ایسا کرتا رہتا ہے۔ احمقُ هَاكٌّ: بہت بے وقوف۔ الهَكُّ (مص) جمع هَكَكَة و اهْكَاك: فاسد العقل، سخت بارش۔ رجلٌ هَكَّاكٌ بالكلام: بے بنیاد کو صحیح سمجھ کر بولنے والا۔ الهَكُوك: کمزور، ہنسی مذاق کرنے والا، سخت بری حالت میں، بدذات۔ الهَكَّوك: ہنسی مذاق کرنے والا، نرم جگہ۔ الهَكِيك: پسا ہوا، مخنث۔ المُنْهَكَّة: دشواری سے بچہ جننے والی عورت۔ المَهْكُوك (مفع): ہنسی مذاق کرنے والا۔

۲۔ الهَكَوَّك: موٹا، سخت جگہ۔

هكب: هَكَبَ ـهَكْبًا به: سے مذاق کرنا۔

هكد: هَكَدَ علی غریمه: مقروض پر تشدد کرنا، دباؤ ڈالنا۔

هكذا: ایسے، اس طرح، اسی طرح، یوں۔

هكر: ۱۔ هَكَرَ ـو هَكِرَ ـهَكْراً و هِكْراً و هَكَراً من كذا: پر بہت تعجب کرنا۔ تَهَكَّرَ: حیران و متعجب ہونا۔ الهَكِر: متعجب، متعجب۔ کہا جاتا ہے: ما فیه مَهْكَرٌ او مَهْكَرَة: اس میں کوئی تعجب نہیں۔

۲۔ هُكِرَ ـهَكْراً و هَكَراً: کو اونگھ آنا۔ الهَكِرُ و الهُكَر: اونگھنے والا۔

هكع: هَكَعَ ـهُكُوعًا: ٹھہرنا، آرام کرنا، مطمئن ہونا۔ ـــ ت البقرُ تحت الشجر: شدت کی گرمی میں گائیوں کا درخت کے سایہ میں آرام لینا۔ ـــ الرجلُ: اقامت کرنا، (کہا جاتا ہے: ذهب فلانٌ فما يُدری این سکع و این هكع: کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا اور کہاں ٹھہرا)۔ ـــ اللیلُ: رات کا اندھیرا پھیلانا۔ ـ فلانٌ بالقوم و إلی القوم: شام کے بعد قوم میں اترنا۔ ـــ الرجلُ: غم یا غصہ سے سر جھکانا۔ ـــ إلی الارض: زمین کی طرف جھکنا۔ ـــ عظمُهُ: (کی) ہڈی درست ہونے کے بعد ٹوٹنا۔ هَكِعَ ـهَكَعًا و اهْتَكَعَ: گھبرانا، مطیع ہونا، خاکساری کرنا۔ الهُكَعَة: احمق۔ الهُكَاع: کھانسی، تکان کے بعد کی نیند۔ الهُكُوع: درخت کے سایہ میں آرام لینے والا گائیوں کا گلہ۔

هكل: هَكَّلَ تَهْكِيلاً الحصانُ و المرأةُ: گھوڑی اور عورت کا متکبرانہ چال چلنا۔ هَيْكَلَ الزرعُ: کھیتی کا بڑھنا، دراز ہونا۔ تَهَاكَلَ القومُ: قوم کا کسی امر میں جھگڑنا۔ الهَيْكَل جمع هَيَاكِل: اونچی عمارت، موٹا جانور، گرجے کی قربان گاہ، صورت، شخص، بت۔ ـ واحد هَيْكَلَة جمع هَيَاكِل: لمبی، بڑی نباتات یا درخت۔ فرسٌ هَيْكَلٌ: دراز قد گھوڑا (یونانی لفظ)۔ الهَيْكَلُ العظمی: ہڈیوں کا ڈھانچہ، پنجر، (یونانی لفظ جس کا اصلی معنی خشک لاش ہے)۔

هيكل: مندر، معبد، شوالہ، عبادت گاہ، خانہ خدا، گرجا، بڑی عمارت، شاندار عمارت، حویلی، عالی شان مکان، قربان گاہ، ڈھانچہ، پنجر، عمارت کی بنیاد، جسم، چوکھٹا (گاڑی وغیرہ کا)، بہت ہی بڑا، عظیم، جن کا جن، بہت وسیع، بہت ضخیم۔ مُنَاوَرَة هَيْكَلِيَّة: چیالا داؤں، چال، بنیادی مشق۔

هكم: هَكَّمَ تَهْكِيمًا فلاناً و لفلان: کسی کے لئے گیت گانا۔ تَهَكَّمَ تِ البئرُ و نحوها: کنویں وغیرہ کا ڈھینا۔ ـــ فلاناً و بفلان: کے ساتھ مسخری کرنا۔ ـــ زیداً: زید کو پے درپے نیزہ مارنا۔ ـــ الرجلُ: مغرور ہونا، جھوٹا بننا، تجاوز کرنا۔ ـــ علی فلان: پر بہت غصے ہونا۔ ـــ علی الامر الفائت: کسی گزرے معاملہ پر نادم ہونا، افسوس کرنا۔ ـــ المطرُ: ناقابل برداشت بارش ہونا۔ ـــ فلانٌ: گانا۔ ـــ لفلان: کے لئے گانا۔ ـــ بفلان: کو بہت یاد کرنا۔ الهَكِم: غیر مفید کام میں پڑنے والا، شریر۔ الأُهْكُومَة:

ٹھٹھا، تمسخر۔ المُتَهَكِّم: متکبر۔

ت تَهَكَّمَ: منہدم ہونا، بغیر مرمت کے چھوڑا ہوا ہونا، ٹوٹا پھوٹا ہونا، مرمت طلب ہونا، خراب، خستہ یا بودا ہونا، نیچے گر پڑنا، ڈھینا، مسمار ہونا۔ —— ہ/ب/ علی: کا مذاق اڑانا، سے تمسخر کرنا، کی ہنسی اُڑانا، کی تضحیک کرنا، سے ٹھٹھا کرنا، پر ہنسنا، کو چھیڑنا، پر طنز کرنا، چوٹ کرنا۔ —— علی: پر ناراض ہونا، پر افسوس کرنا۔ اُهْكُومَة: استہزاء، تحقیر، مذاق، تمسخر، تضحیک، طعنہ زنی، طعنہ چھبتی، آوازے کسنا، لعنت ملامت۔ تَهَكُّم: تمسخر، تضحیک، طعنہ زنی، مذاق، استہزاء، تحقیر، طعنہ، طعن، طنز، ستم ظریفی، تحریض، چبھتی ہوئی بات، جلی کٹی بات۔ تَهَكُّمِيّ: استہزائی، تمسخر آمیز، حقارت آمیز، تعریضی، طنز آمیز، طنزیہ، ذلت آمیز۔ مُتَهَكِّم: نقل اتارنے والا، منہ چڑانے والا، مذاق کرنے والا، طعنہ آمیز، طنزیہ۔

هکن: تَهَكَّنَ علی الامر الفائت: گزشتہ معاملہ پر نادم ہونا۔

هکو: هَاكَى مُهَاكَاةً: کو کم عقل سمجھنا۔ الأَهْكَاءُ: حیران لوگ۔

هل: هَلْ: حرف استفہام بمعنی "کیا" ہے جیسے: هل طلع النهار (کیا دن نکل آیا؟) اور یہ نسبت ایجابیہ کے استفہام کے لئے مخصوص ہے مثلاً: هل قام زیدٌ (کیا زید کھڑا ہوا؟) تو جواب ہوگا نعم (ہاں) یا لا (نہیں)۔ هل لم یقم (کیا وہ کھڑا نہیں ہوا) نہیں کہا جائے گا۔ اگر نفی سے استفہام مقصود ہو تو ہمزہ لاتے ہیں پھر ہل ایسے اسم پر بھی نہیں آتا جس کے بعد فعل ہو مثلاً: هل قام زید اور هل زیدٌ قائم (کیا زید کھڑا ہوا۔ کیا زید کھڑا ہے) کہا جائے گا، هل زیدٌ قام (کیا زید کھڑا ہوا) نہیں کہا جائے گا۔ جملہ شرطیہ پر نہیں آتا اور نہ اس جملہ پر آتا ہے جس پر ان حرف تحقیق داخل ہو مثلاً نہیں کہہ سکتے: هل ان قام زید تقم یا هل ان زیداً قائمٌ: بخلاف همزه کے کیونکہ اس میں وسعت ہے۔ اگر مضارع پر داخل ہو تو اس کو مستقبل کے لئے مخصوص کردیتا ہے چنانچہ: هل تذهب الآن: (کیا تم اب جارہے ہو) نہیں کہہ سکتے۔

هلّ: ۱۔ هَلَّ ـ هَلًّا المطرُ: بارش کا زور سے برسنا۔ —— الرجُلُ: خوش ہونا، چلانا۔ — الهلالُ: نیا چاند نکلنا۔ — الشهرُ: ماہ قمری کا شروع ہونا۔ — ت المرأة الرغیف: عورت کا اپنے ہاتھ پر روٹی پتلی اور بڑی کرنا (عام عوبان میں)۔ هَلَّلَ تَهْلِيلاً: تسبیح پڑھنا۔ هَلِّلُويا (عبرانی لفظ) کہنا۔ لا اله الا الله کہنا۔ —— الكاتبُ: کاتب کا کتاب لکھنا۔ هَالَّ هِلالاً و مُهَالَّةً الاجیرَ: مزدور کو مہینہ کے لئے نوکر رکھنا۔ اَهَلَّ اللّٰهُ السحابَ: اللہ کا بادل سے پانی برسانا۔ —— الهلالُ: چاند ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ —— الشهرُ: قمری مہینہ کا شروع ہونا۔ القومُ الهلالَ: چاند دیکھ کر لوگوں کا آواز بلند کرنا۔ —— الرجُلُ: نئے چاند کی طرف دیکھنا۔ —— الشهرَ: مہینہ کا نیا چاند دیکھنا۔ —— الصبیُّ: بچہ کا رونے میں آواز بلند کرنا۔ —— المُلَبِّی: تکبیر بلند آواز سے کہنا۔ —— فلانٌ بذکر اللّٰه: کوئی نعمت پا کر یا عجیب چیز دیکھ کر اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا۔ (اَهَلَّ بالتسمیة علی الذبیحة: ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا، بسم اللہ کہنا)۔ — السیفُ بفلان: تلوار کا کسی کو کاٹنا۔ —— العطشانُ: پیاسے کا تھوک جمع کرنے کے لئے زبان کو تالو سے لگانا۔ اُهِلَّ الهلالُ: نیا چاند نمودار ہونا۔ —— الشهرُ: نیا مہینہ شروع ہونا، نئے مہینہ کا چاند نکلنا۔ تَهَلَّلَ ت العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ — ت دموعُهُ: کے آنسو بہنا۔ — الوجه او السحابُ: چہرے یا بادل کا چمکنا۔ — فلانٌ: کے چہرے کا خوشی سے دمکنا۔ اِنْهَلَّ المطرُ: زور سے تڑا تڑ بارش برسنا۔ — ت السماءُ بالمطر: آسمان کا بارش برسانا۔ —— ت العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ اِهْتَلَّ المطرُ: زور سے تڑا تڑ بارش برسنا۔ —— الوجهُ و السحابُ: چہرے یا بادل کا چمکنا، دمکنا۔ — الرجلُ: ہنسنے میں دانت ظاہر کرنا۔ اِسْتَهَلَّ المطرُ: زور سے تڑا تڑ بارش برسنا۔ — تِ السماءُ: آسمان کا پہلی بارش برسانا۔ — ت العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ —— القومُ الهلالَ: لوگوں کا ہلال دیکھنا۔ —— الهلالُ: ہلال ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ — الشهرُ: مہینہ شروع ہونا۔ — الشهرَ: مہینہ کا نیا چاند دیکھنا۔ — الوجهُ: چہرے کا خوشی سے دمکنا۔ —— الصبیُّ: بچہ کا پیدائش کے وقت زور سے رونا، ہر بولنے والے کا اپنی آواز کو اونچا کرنا۔ — قصیدتَهُ: اپنی نظم شروع کرنا۔ اُسْتُهِلَّ الهلالُ: نیا چاند دکھائی دینا۔ —— السیفُ: تلوار کا نکالا جانا۔ الهِلُّ: قمری مہینہ کا آغاز۔ کہا جاتا ہے: اتیتهُ فی هِلّ الشهر: میں اس کے پاس مہینہ کے شروع میں آیا۔ الهَلُّ (مص) باریک بال، کپڑا۔ الهِلَّة کہا جاتا ہے: جاء نا فلانٌ فلم یاتنا بهِلَّة ولا بلّة: فلاں شخص ہمارے پاس آیا اور کچھ نہ لایا۔ الهَلَّة: هلّ کا اسم مرة۔ هَلَل کا واحد، چراغ دان۔ کہا جاتا ہے: اتیتهُ فی هلّة القمر: میں اس کے پاس مہینے کے شروع میں آیا۔ — صاب هلّه: اس نے کچھ نہیں پایا۔ الهَلَل: پہلی بارش، بارشیں۔ واحد هَلَّة مکڑی کا جالا۔ الهَلَل: بارشیں، واحد هَلَّة۔ الهَلَالُ: پہلی بارش۔ الهِلال (مص هالّ) جمع اَهِلَّة و اَهَالِیل: نیا چاند، مہینہ کے شروع سے پہلی سے تیسری یا ساتویں رات یا آخر ماہ کی دو راتوں یعنی چھبیسویں ستائیسویں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اور باقی راتوں کے چاند کو قمر۔ بوچھاڑ، پہلی بارش، ٹوٹی ہوئی چکی کا کنارہ، شکار کے گھاؤ لگانے کا لوہا، جوتے کا تسمہ، لاغر اونٹ، ناخنوں کی جڑوں کی سفیدی، اونٹوں کا نشان، تھوڑا پانی۔ (ح): سانپ، سانپ کی کینچلی، گرد و غبار، خوبصورت لڑکا۔ — عند اهل الهیئة: اہل ہیئت کے نزدیک پہلی رات کا چاند۔ الهُلَّی: غم کے بعد آنے والی خوشی۔ هَلِّلُويَا: عبرانی زبان کا لفظ جس کا معنی ہے: پروردگار کی تسبیح کرو۔ کہا جاتا ہے: ذهب بِهِلِّيَانَ و بِذِي هِلِّيَانَ: وہ چلا گیا، لیکن پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ الهَلِيلَة: ایسی زمین جو بارش سے سیراب ہو لیکن اردگرد کی زمینیں سیراب نہ ہوئی ہوں۔ الإِسْتِهْلَال (مص): قصیدہ کا خوبصورت آغاز۔ الأَهَالِیل: بارشیں۔ اس کا کوئی واحد نہیں یا واحد اُهْلُول ہے۔ المُهَلَّل: کمان کی طرح جھکا ہوا۔ المُهَلِّل فا۔ ابلٌ مُهَلَّلَة: لاغر اور کمان کی طرح جھکے ہوئے اونٹ۔ المُسْتَهَلّ: قصیدے کا مطلع۔ کہا جاتا ہے: ما احسنَ مستهلّ قصیدته: اس کے قصیدے کا مطلع کتنا خوبصورت ہے؟

۲۔ هَلَّلَ تَهْلِيلاً الرجلُ: آدمی کا بزدل ہونا، بھاگ جانا۔ — عن قِرنه: اپنے مدمقابل سے پیچھے ہٹنا۔ — عن شتمه: کو گالی دینے سے رکنا۔ الهَلَل: ڈر، خوف۔ کہا جاتا ہے: هلك فلانٌ هَلَلاً: فلاں شخص خوف سے ہلاک ہوگیا۔ المُهَلِّل (فا) وہ آدمی جو اپنے ہمسر پر حملہ کرے لیکن پھر بزدلی کی وجہ سے ہٹ جائے۔

۳۔ هَلَّا: کیوں نہیں۔ هل اور لا سے مرکب ہے ماضی پر داخل ہو تو ترک فعل پر ملامت کے معنی دیتا ہے جیسے: هلّا آمنتَ: تو ایمان کیوں نہ لایا۔ مضارع پر داخل ہو تو کسی فعل پر برانگیختہ کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے: هلا تؤمن: تو ایمان کیوں نہیں لاتا۔

۴۔ هَلْهَلَ النسّاجُ الثوبَ: جولاہے کا کپڑے کو باریک بننا۔ — الشعرَ: شعر عمدہ بنانا، اصلاح کرنے کے بغیر شعر جیسا بنا ویسا ہی کہہ دینا۔ —— الطحینَ: آٹا چھاننا۔ — الصوتَ: گلے میں آواز پھرانا۔ — الرجُلُ فی الامر: میں انتظار کرنا، دیر کرنا۔ الهَلْهَل: ردی

بناوٹ کا کپڑا، عمدہ شعر یا باریک کپڑا۔ الھُلھُل: برف۔ الھَلھَال: عمدہ شعر یا باریک کپڑا۔ الھُلاھِل: بہت اور صاف پانی، عمدہ شعر یا باریک کپڑا۔

۵۔ ھَلھَلَ بفرسہ: گھوڑے کو ہلا کہہ کر ڈانٹنا۔ ـــ عن الشیءِ: سے واپس ہونا۔ کہا جاتا ہے: ھَلھَلَ یُدرِکُہُ: قریب تھا کہ وہ اس کو جا پکڑے۔

○ ھل: کیا۔ ھَل بَمْ: خواہ، یا، آیا کیا (دو میں سے کوئی ایک)۔ ھَلاَّ: کیا نہیں؟ کیوں نہیں؟ ھَلَّ۔ ھَلاًّ: نیا چاند نکلنا، نظر آنا، دکھائی دینا۔ (مہینہ کا) شروع ہونا۔ ھَلَّلَ: لا الہ الا اللہ کہنا، خوشی سے چلانا، خوش ہونا، خوش و خرم ہونا، بہت خوش ہونا، باغ باغ ہونا، پھولے نہ سمانا، مسرت کا اظہار کرنا، شادیانے بجانا۔ ـ ل: کو زور سے تحسین و آفریں کہنا، کو خوش آمدید کہنا، کا دل بڑھانا، کی ہمت بندھانا، کی تحسین و آفریں کرنا، کو مرحبا کہنا۔ أَھَلَّ: (نیا چاند) نکلنا، خوش ہونا، بغلیں بجانا۔ ـــ ب ل: کسی دیوی دیوتا کے لئے کسی جانور کی قربانی دینا۔ تَھَلَّلَ: چمکنا، دمکنا، منور ہونا، تاباں ہونا، چہرے کا خوشی سے چمک اٹھنا، خوش ہونا، مسرور ہونا، شاداں و فرحان ہونا، خوشی منانا۔ اِنْھَلَّ: بارش کا زور سے برسنا۔ ـ فی: کے ساتھ شروع کرنا، کی طرف توجہ کرنا، کو اپنے سر لینا، کی ذمہ داری لینا، کا بیڑا اٹھانا، کو شروع کرنا، کچھ کرنا، کو سلجھانا، پر حملہ کرنا، کا آغاز کرنا۔ اِسْتَھَلَّ: (نیا مہینہ) شروع ہونا، اپنی آواز بلند کرنا۔ ـــ ہ: کو لحن سے پڑھنا، کوئی دھن بجانا، کوئی کام شروع کرنا۔ ہ ب: کو سے کھولنا، کو سے شروع کرنا، کو سے رائج کرنا۔ ھِلال جمع اَھِلَّہ أَھالِیل: نیا چاند، ہلال، نصف چاند، جملہ معترضہ، ہلال نما کوئی چیز۔ ھِلالی: چاند کا، قمری، ہلالی شکل کا، درانتی کی شکل کا۔ ھَلَل: ہول، دہشت، خوف، ڈر، ہراس، اندیشہ۔ استھلال: آغاز، شروع، ابتداء، افتتاح، تمہید، تعارف، داخلہ، روشناسی۔ اِسْتِھلالی: ابتدائی، پہلا، شروع کا، آغاز کا، تعارفی، تمہیدی۔ مُھَلَّل: ہلال شکل کا۔ مُتَھَلِّل: خوش، شاداں، فرحاں، خوش و خرم، شادمان، مسرت کا اظہار کرنے والا، شاداں، خوشی سے اترانے والا، آپے سے باہر ہونے والا، تابندہ، فروزاں، چمکدار، منور، شگفتہ، روشن، دمکتا ہوا۔ مُسْتَھَلّ: آغاز، شروع، ابتداء۔

ھلب: ا۔ ھَلَبَ۔ ھَلْباً ہُ: کے بال اکھیڑنا۔ ـــ ذَنَبَ الفرس: گھوڑے کی دم کاٹنا۔ ھَلِبَ۔ ھَلَباً: بہت بالوں والا ہونا۔ ھَلَّبَ ہُ: کے بال اکھیڑنا۔ تَھَلَّبَ و اِنْھَلَبَ الشعرُ: بالوں کا اکھڑا ہوا ہونا۔ اِھْتَلَبَ السیفَ من غمدہ: تلوار سونتنا۔ الھُلْب: واحد ھُلْبَہ: بال، پلکیں، بعض کے نزدیک موٹی پلکیں یا دم کے بال، خنزیر کے بال۔ الھُلَب: اکھڑے ہوئے بالوں کی دمیں یا ایال۔ الھَلِب: بہت بالوں والا۔ الھُلْبَة: ھُلْب کا واحد: پیڑو۔ (فک): ایک ستارہ۔ ھُلْبَة الشھر: مہینے کا آخر۔ الأَھْلَب: بہت بالوں والا، بے بالوں والا (ضد) ذَنَبٌ أَھْلَبُ: کٹی ہوئی دُم۔ الھَلْباء: اھلب کا مؤنث۔ رقبة ھَلْباءُ: بہت بالوں والی گردن۔ فرس مَھْلُوبٌ: کٹی ہوئی دم والا گھوڑا۔

۲۔ ھَلَبَ۔ ھَلَباتٍ السماءُ القومَ: آسمان کا قوم کو بارش سے گیلا کرنا یا قوم پر لگاتار بارش برسانا۔ أَھْلَبَتِ السماءُ القومَ: آسمان کا قوم کو بارش وغیرہ سے گیلا کرنا۔ لیلةٌ ھَالِبَةٌ: بارش والی رات۔ ھُلْبَةُ الشتاءِ او الزمان: موسم سرما یا زمانہ کی سختی۔ ھُلَّبَةُ الشتاء او الزمان: مندرجہ بالا معنی عامٌ أَھْلَبُ: بہت بارشوں والا سال، سرسبزی کا سال۔ عَیْشٌ أَھْلَبُ: آسودہ زندگی۔ کہا جاتا ہے: وقعنا فی ھُلْبة ھَلْباء: ہم سخت مصیبت میں پھنس گئے۔ الھَلاَّب: بارش والی سرد ہوا، جنوری کے سخت سرد دن۔ عامٌ ھَلاَّبٌ: بہت بارشوں والا سال۔ یومٌ ھَلاَّب: ہوا اور بارش والا دن۔ الھَلاَّبة: بارش والی سرد ہوا۔ الھَلِیب و المُھَلّب: جنوری کے سخت سرد دن۔

۳۔ ھَلَبَ۔ ھَلْباً فلانٌ القومَ بلسانہ: فلاں کا لوگوں کی ہجو کرنا، کو گالی دینا۔ ھَلَّبَ القومَ بلسانہ: لوگوں کی ہجو کرنا، لوگوں کا گالیاں دینا۔ الھَلاَّب: مبالغہ کا صیغہ، بہت ہجو کرنے والا۔ المُھَلَّب: جس کی ہجو کی گئی ہو۔

۴۔ ھَلَبَ۔ ھَلْباً الفرسُ: گھوڑے کا مسلسل دوڑنا۔ أَھْلَبَ الفرسُ: گھوڑے کا لگاتار دوڑنا۔

۵۔ الأُھْلُوب جمع أَھالِیب: فن، طریقہ، اسلوب۔ المُھَلَّبِیَّة (ط): دودھ چاول کے آٹے اور چینی سے تیار کیا ہوا ایک کھانا۔

○ ھَلِبَ۔ ھَلَباً: گھنے بالوں والا ہونا، بالوں سے ڈھکا ہونا۔ ھَلِب: بالوں سے بھرا ہوا، لمبے موٹے بالوں والا، جھبرا، روئیں دار، بال دار۔ ھُلْب: اسم جنس واحد ھُلْبَة: بال، سور کے سخت بال، ھِلْب جمع اَھْلاب: لنگر، لنگر بیڑی، کشتی کا کنڈا۔ اَھْلَب م ھَلْباء جمع ھُلْب: بال دار، روئیں دار، بہت بالوں والا، بالوں سے ڈھکا ہوا، گچھے دار موٹے بالوں کا۔

ھلت: ھَلَتَ۔ ھَلْتاً الشیءَ: چیز کو چھیلنا۔ اِنْھَلَتَ الشیءُ: چیز کا چھلنا۔ کہا جاتا ہے: اِنْھَلَتَ یَعْدُو: وہ چپکے سے بے خبری میں کھسک گیا۔

ھلث: الھُلاث: ڈھیلا پن۔ الھَلْثَی و الھَلْثاء و الھِلْثاء و الھُلْثَة: بہت شور کرنے والی جماعت۔ الھَلْثاءَة و الھِلْثاءَة: ڈھیلا پن، بہت شور کرنے والی جماعت۔

ھلج: ا۔ ھَلَجَ۔ ھَلْجاً: غیر یقینی خبریں دینا۔ أَھْلَجَ الشیءَ: چیز کو چھپانا۔ الھَالِج (فا): پریشان خوابیں دیکھنے والا۔ الھَلْج (مص): غیر یقینی خبر، نیند کی جھپکی۔ ـ و الھُلُج: پریشان خوابیں۔

۲۔ الھَلَج: ایک خاردار درخت۔

○ ھَلِیلَج و إھْلِیلَج: ہلیلہ، بڑی ہڑ، ہلیلہ کابلی جو رنگائی کے کام میں آتی ہے (myrobalan)۔ بیضوی شکل، ہلیلجی شکل وہ ہندسی شکل جو مخروط کو ترچھا تراشنے سے بنتی ہے۔ (ellipse)۔ إھْلِیلَجی: بیضوی، ہلیلجی (elliptic)، (elliptical)۔

ھلز: تَھَلَّزَ الرجُلُ: پھرتی سے کوئی کام کرنے لگنا، دامن چننا، چوکس ہونا۔

ھلس: ا۔ ھَلَسَ۔ ھَلْساً ہُ المرضُ: کو بیماری کا لاغر کر دینا۔ ھُلِسَ: سل کی بیماری لاحق ہو کر انسان کا مسلوب العقل ہو جانا صفت: مَھْلُوس۔ ھَلَّسَ الرجُلُ: لاغر ہو جانا۔ ھَالَسَ مُھَالَسَةً ہُ: سے سرگوشی کرنا۔ اَھْلَسَ المرضُ فلاناً: کو بیماری کا گھلا دینا۔ ـ الحدیثَ: بات چھپانا۔ ـ إلی فلانٍ: سے کوئی بات چپکے سے کہنا، مسکرانا۔ الھَالِس (فا): ھَوالِس کا واحد، دبلا، پتلے جسم والا، کہا جاتا ہے: رجالٌ ھَوالِس: دبلے پتلے مرد۔ الھَلْس (مص): پتلا پن، لاغری، سل کی بیماری۔ الھُلْس: مرض سے کمزور لوگ، کمزور لوگ۔ الھُلاس: سل کی بیماری۔ ظلامٌ مُھْلِسٌ: مدھم اندھیرا۔ المَھْلُوس مفع: رجلٌ مَھْلُوسُ العقل و مُھْتَلَسُہُ: مسلوب العقل۔

۲۔ الھَلْس: بہت بھلائی، خیر کثیر۔

○ ھَلَسَ۔ ھَلْساً ہُ: بیماری کا کسی کو دبلا کرنا، لاغر کرنا، گھلا دینا۔ ھُلِسَ: مدقوق ہونا، سل زدہ ہونا، دق کا مارا ہوا ہونا، سل کا مریض ہونا۔ ھَلَّسَ: گھلنا، لاغر ہو جانا، پتلا دبلا ہونا، کمزور ہو جانا، (منہ کا) اترا ہونا، بیہودہ گوئی کرنا۔ اَھْلَسَ: مسکرانا۔ ھَلْس: لاغری، دبلا پن، گھلنا، سل (کا مرض)، دق، پھیپھڑوں کی دق، سل، بیہودگی، حماقت، بیہودہ گفتگو۔ ھَلْسِنکی: ہلسنکی (فن لینڈ کا دار الحکومت)۔

هلع: هَلِعَ -هَلَعًا: گھبرانا (صفت هَلِع و هَلُوع): بھوکا ہونا۔ الهُلَعُ: حریص۔ الهَالِع جمع هَوَالِع (فا)۔ نعامٌ هالِعٌ: تیز رفتار شتر مرغ، مونث کے لئے نعامةٌ هالعٌ و هالِعة کہا جاتا ہے۔ شحٌّ هَالِعٌ: غمناک حرص۔ الهَـلـع (مصدر) و الهُلاع و الهُلـعـان لڑائی میں بزدلی۔ الهَلِع: غمگین۔ الهُلَعَة: جلد گھبرانے والا، الهَلُوع: گھبرانے والا، ڈرپوک، حریص، لالچی، مصیبتوں میں صبر نہ کرنے والا۔

ت هَلِعَ -هَلَعًا: بے صبر ہونا، بے چین ہونا، تنگ آجانا، بیتاب ہونا، بے قرار ہونا، مضطرب ہونا، پریشان ہونا، مایوس ہونا۔ هَلَع: بے صبری، بے قراری، بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی، خوف، اندیشہ، کھٹکا، ہول، دہشت۔ هَلِع: بے صبر، بے چین، بیقرار، پریشان، دہشت زدہ، خوفزدہ۔ هَلُوع: بے صبر، بے چین، بے قرار، پریشان، دہشت زدہ، خوف زدہ۔

هلف: الهِلَّوْف: بھاری بھر کم، سخت بدن کا، بڑی داڑھی والا، بہت بالوں والا، گھنی داڑھی، ابر آلود دن جس میں سورج نہ نکلے، زیادہ پشم والا بوڑھا اونٹ (ح) جنگلی سؤر، بہت بوڑھا آدمی، جھوٹا۔ الهِلَّوفة: بہت جھوٹ بولنے والا، گھنی داڑھی، بڑھیا۔ الهُـلْـفُوف: بہت بالوں والا، غیر مہذب۔

ت هِلَّوف: داڑھی والا۔

هلق: ۱۔ هَلَقَ -هَلْقًا و تَهَلَّقَ: جلدی کرنا۔

۲۔ هَلْقَمَ الشيءَ: چیز کو نگلنا۔ الهِلْقَام: موٹا، لمبا، (ح): شیر، کشادہ باچھوں والا اونٹ وغیرہ۔ — والهِلْقَمّ: بڑا سردار جو لوگوں کی دیتوں کو برداشت کرے۔ — والهِلْقَامة و الهِلْقَامة و الهَلْقَم: پیٹو، کھاؤ۔ الهِلْقِم: قوی، کشادہ باچھوں والا، بڑی عورت۔ کہا جاتا ہے: بحرٌ هِلْقِمٌّ: بحر عظیم۔

ت هَلْقَمَ ہ: کو ہڑپ کرنا، نگلنا، کو بے تحاشا کھانا۔

هلك: هَلَكَ -هَلاكًا و هُلْكًا و هُلُوكًا و تَهْلُوكًا و مَهْلِكًا و تَهْلُكَةً: ہلاک ہونا، فنا ہونا، مرنا (برے معنی میں)۔ —ت النفس في اصطلاح المسيحيين: (عیسائیوں کی اصطلاح میں) نفس کا جہنم میں گرنا۔ — هَلاكًا إليه و عليه: کا حریص ہونا، لالچی ہونا، (کھانے پینے) کا لالچی ہونا۔ هَـلَّكَ ہ: کو فنا کرنا، کھونا۔ ہلاک کرنا، تباہ کرنا۔ اَهْـلَكَ ہ: کو فنا کرنا، کھونا۔ — المالَ: مال بیچنا۔ تَهَلَّكَ في مشيه: مٹک کر چلنا۔ — في المفاوز: ریگستان میں آوارہ پھرنا، گھومنا۔ تَهَالَكَ على الشيءِ: کا بہت حریص ہونا (کہا جاتا ہے: انا مُتَهالِكٌ في مودّتك: میں تمہاری دوستی (محبت) کا بہت حریص ہوں)۔ — في الامر او العَدْوِ: کام یا دوڑ نے کی جلدی کوشش کرنا۔ — على الفراش: فرش پر گر جانا۔ — في مشيه: مٹک کر چلنا۔ اِنْهَلَكَ و اِهْتَلَكَ: اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: مـرّ يهتـلك فـي عـدوه: وہ دوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے گزرا۔ اِسْتَهْلَكَ ہ: کو ہلاک کرنا، فنا کرنا۔ — المالَ: مال خرچ کرنا۔ — في الامر: کام کی جلد کوشش کرنا۔ الهَالِك جمع هَلْكَى و هُلَّك و هُلّاك و هَوَالِك: (یہ فوارس اور نواکس کی طرح خلاف قاعدہ ہیں) ہلاک ہونے والا۔ الهَالِكة: ہالک کا مونث، نفس حریص۔ الهَالِكِيّ: لوہار۔ الهَالُوك: سکھیا۔ الهُلْك و الهَلْك: ہلاکت۔ کہا جاتا ہے: لاذهبنّ فإمّا هُلْكٌ و إمّا مُلْكٌ: یعنی میں جا کر رہوں گا، خواہ تخت ملے یا تختہ۔ الهُـلُك: ہلاک ہونے والا نفس۔ الهَـلَك: مردار کی لاش، گرنے والی چیز، پہاڑ کی چوٹی اور اس کے دامن کے درمیان کی فضا، دو چیزوں کے درمیان کی ہوا۔ — واحد هَلَكَة: قحط کے سال۔ الهُـلْكَة جمع هُلَكٌ: هلك کا اسم نوع۔ فلانٌ هِـلْكَة من الهَلَك: فلاں شخص کمینہ ہے۔ الهَلْكَة جمع هَلَكَات: ہلاکت۔ هلك کا واحد۔ الهَلْكَاءُ: ہلاکت، اور دینے کے لئے کہا جاتا ہے: هَـلَـكَـة هَلْكَاء: زبردست ہلاکت۔ الهَلْكُون و الهِلْكُون: قحط زدہ زمین، اگرچہ وہاں پانی ہو، وہ زمین جس پر عرصہ سے بارش نہ ہوئی ہو۔ کہا جاتا ہے: هـذه ارضٌ هَـلْـكُون او هَلْكِين: یہ وہ زمین ہے جہاں عرصہ سے بارش نہیں ہوئی۔ الهُلّاك: راستہ گم کردہ لوگ، بھکاری لوگ۔ الهَلُوك جمع هُلُك من النساء: آوارہ عورت۔ اُهْـلَكُ الـنـاس: زیادہ ہلاک ہونے والے۔ التَهْـلُكَة: ہر وہ چیز جس کا انجام ہلاکت ہو۔ التَهْـلُوك: ہلاکت۔ الـمَهْـلَكَة و الـمَهْـلِكَة و الـمَهْـلُكَة جمع مَهَالِك: ہلاکت کی جگہ، بیابان ریگستان۔ المَهَالِك: لڑائیاں، جنگیں۔ المُهْتَلِك: دوسروں پر گذارہ کرنے والا۔ المُهْتَلِكُون: چارہ کی تلاش میں راہ گم کردہ لوگ۔ کہا جاتا ہے: طريقٌ مُسْتَهْلِكُ الوِرْدِ: دشوار گزار راستہ۔

ت هَلَكَ -هَلْكًا و هُلْكًا و هَلَاكًا و تَهْلُكَةً: فنا ہونا، مرنا، نیست و نابود ہونا، تباہ ہونا، (کا) نام و نشان مٹ جانا، حرف غلط کی طرح مٹ جانا۔ هَـلَّكَ و اَهْـلَكَ ہ: کو تباہ کرنا، برباد کرنا۔ اَهْـلَكَ الـحـرثَ و النَسْلَ: بالکل یا تمام کا تمام تباہ کر دینا۔ تَهَالَكَ في: میں یا کو کرنے کی کوشش کرنا، زور لگانا، جد و جہد کرنا۔ — علـى: پر جھپٹا مارنا، پر گرنا، پر اپنے آپ کو گرانا، کے لئے جان پر کھیل کر لڑنا، کے لئے لالچ طمع یا حرص و آز سے کام لینا، کا آرزومند ہونا، کے لئے ولولہ، جوش یا گہری دلچسپی محسوس کرنا، میں سرگرمی سے لگ جانا۔ —: کمزور ہونا، لاغر ہونا، تھک جانا، ہار کر بیٹھ جانا، ہمت ہار دینا۔ اِنْهَـلَكَ و اِهْتَـلَكَ: خطرہ مول لینا، جان جوکھوں میں ڈالنا، جان پر کھیل کر کرنا۔ اِسْتَهْـلَكَ في: کی کوشش کرنا، میں جانفشانی کرنا، جد و جہد کرنا، کی انتہائی کوشش کرنا۔ — ہ: کو ضائع کرنا، لٹانا، اڑا دینا، خرچ کرنا، کو کل خرچ کر ڈالنا، کو سارا استعمال کر لینا، برت ڈالنا، کو استعمال میں لانا۔ (قرضہ) چکانا، ادا کرنا۔ اُسْتُهْلِكَ: فنا ہونا، مرنا۔ هُـلْك: موت، تباہی، بربادی۔ هَـلْكَة و هَلَكَة: مکمل گھاٹا، خسارہ یا نقصان، تباہی، بربادی، آفت، سانحہ، مصیبت، خطرہ، سخت خطرہ کی صورت حال۔ هَلَاك: مکمل خسارہ، گھاٹا، نقصان، تباہی، بربادی، ستیاناس، ابدی نفرین، پھٹکار، عذاب۔ مَهْـلَكَة و مَهْـلُكَة و مَهْـلِكَة جمع مهالِك: خطرناک جگہ، خطرہ کی جگہ، خطرناک صورت حال، خطرہ، سخت خطرہ۔ تَهْـلُـكَة: تباہی، خطرہ، خطرناک صورت حال۔ تَهَـالُك على: کے لئے جوش ولولہ، شوق سرگرمی، میں واضح دلچسپی۔ تهـالك: کمزوری، تھکن، تھکاوٹ، مشقت، سخت تھکاوٹ، غنودگی۔ استهـلاك: خرچ، استعمال، صرف، فرسودگی، گھستا، قرض کی ادائیگی، بیباقی۔ اِسْتِهلاكي: استعمال کی (چیزیں وغیرہ)۔ مُسْتَهْـلِك: صارف (consumer)۔ مُسْتَهْـلَك: خرچ، استعمال۔ هَـالِك جمع هَـلْـكَى و هُلَّك و هُلّاك و هَـوَالِك: فنا ہونے والا، مرنے والا، مرا ہوا، فانی، فنا پذیر، برباد ہونے کے لائق، قابل بربادی، ناپائدار، زائل ہو جانے والا، دوزخ میں جانے والا، ملعون، ناقابل تلافی طور پر برباد شدہ، ناقابل واگزاشت۔ مُهْلِك: تباہ کن، نیست و نابود کرنے والا، ضرر رساں، جانکاہ، مرجھایا ہوا، مضر، مہلک، مضرت رساں، خراب حال، خطرناک، خوفناک، جان لیوا، تباہی یا استیصال کا وسیلہ، ذریعہ یا آلہ۔ مُتَهَالِك: تھکا ہوا، خراب، خستہ، پٹا ہوا مہرہ۔ هَلِّلُويا: حمد و ثنا۔

هلم: ۱۔ هَـلُمَّ: چلے آؤ۔ (لازم)۔ هَـلُمَّ شهداء كـم: اپنے گواہوں کو حاضر کرو۔ یہ ایک ایسا اسم فعل ہے جس میں واحد، جمع، تذکیر و تانیث یکساں ہے۔

اسے فعل بنا کر متصرف کی شکل دیتے ہوئے اس کے ساتھ ضمیریں لگاتے ہیں چنانچہ تثنیہ کی صورت میں کہتے ہیں: هَلُمَّا: مونث کی صورت میں کہتے ہیں: هَلُمِّي: مذکر کی جمع کی صورت میں کہتے ہیں: هَلُمُّوا اور عورتوں کو کہتے ہیں: هَلْمُمْنَ۔ اکثر عرب ایسا کرتے ہیں لیکن پہلی بات زیادہ فصیح ہے۔ کبھی اس کے ساتھ لام کا صلہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں: هَلُمَّ لَكَ و هَلُمَّ لكما: جیسے کہتے ہیں هيت لك۔ کبھی اس کے ساتھ تاکید کا نون ثقیلہ بھی لگا لیتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: هَلُمَّنَّ يا رجل و هَلُمِّنَّ يا امراة و هَلُمَّانِّ يا رجلان و يا امراتان و هَلُمُّنَّ يا رجال و هَلْمُمْنَانِّ يا نسوة۔ هَلْمَمَ هَلْمَمَةً بفلان: فلان کو هَلُمَّ کہہ کر بلانا۔ اَهْلَمَ بفلان: کو بلانا، پکارنا۔ الهَلُم: هَلُمَّ کا جواب۔ کہا جاتا ہے: جاد بهلم: اس نے اس کی اطاعت کی۔

۲۔ الهِلْم (ج): پہاڑی ہرنیاں۔ الهِلَّم: ڈھیلا۔ کہا جاتا ہے: رجلٌ هِلَّمٌ و امراة هِلَّمَةٌ: ڈھیلا مرد، ڈھیلی عورت۔ الهُلام (ط): بچھڑے کے گوشت پوست سے تیار کیا ہوا کھانا، سکباج کا روغن سے صاف کردہ شوربا، چپکانے والا مادہ۔ الهَلْيَم: چمٹنے والا، چپکنے والا۔ الهَيْلَمان و الهَيْلُمان و الهِلْمَان: بہت چیز، بعض کے نزدیک اس کا معنی خیر کثیر ہے۔ کہا جاتا ہے: جاء نا بالهَيْلِ و الهَيْلَمان: وہ بہت مال لے کر ہمارے پاس آیا۔

ت هَلُمَّ: اٹھو، آؤ، نہ بھئی، اب، آ و بھی، آگے کی طرف۔ لاؤ! مجھے (ہمیں) دو! ۔ هَلُمِّي اليه: اب جلدی سے اس کے پاس جاؤ (مونث کو خطاب)۔ هَلُمَّ بنا: آؤ بھی، آؤ چلیں۔ و هَلُمَّ جَرًّا: وغیرہ وغیرہ، و قِس على هذا۔ هِلَّم: نڈھال، تھکا ماندہ، سست، لنگڑا، کاہل الوجود۔ هُلامٌ جیلی (jelly)، جلاٹین (gelatin)۔ هُلامِيّ: جیلی جیسا، چپ چپا، چیپ دار، لیس دار۔

هلي ۱۔ هَالَى مُهَالاةً: سے لڑنا، سے جھگڑنا۔ الهَالِي: هائل کا الٹ۔ هلا: گھوڑے کو ڈانٹنے کی آواز۔ هَيْهَلا: دیکھو مادہ ح ی ی۔

۲۔ الهِلْيُوسْكُوب: آفتاب کو بغور دیکھنے کی سیاہ یا رنگین شیشوں والی دوربین۔

۳۔ هِلِيُوكُوبْتِر: ہیلی کاپٹر (helicopter)۔

۴۔ الهِلْيُوم: ہیلیم (helium) (ایک ہلکی گیس کا نام)۔

۵۔ الهِلْيَون: واحد هِلْيَونة (ن): مارچوبہ، ناگ دون، موصلی سفید (asparagus)۔

هم ۱۔ هَمَّ۔ هَمًّا و مَهَمَّةً الامرُ فلانًا: کو کسی معاملہ کا بے چین کرنا، غمگین کرنا۔ السقمُ جسمَهُ: بیماری کا جسم کو گھلا دینا۔ فلانٌ الشحمَ: فلاں کا چربی پگھلانا۔ ت الشمسُ الثلجَ: سورج کا برف پگھلانا۔ اللبنَ: دودھ دوہنا۔ هَمَّ بالشيءِ: کسی چیز کا ارادہ کرنا، کو پسند کرنا، کا عزم کرنا، قصد کرنا۔ کہا جاتا ہے: وقعتِ السُّوسةُ في الطعام فهَمَّتْهُ: کیڑا کھانے میں گر گیا اور اسے کھانے کا گودا کھا کر اسے کھوکھلا کر دیا۔ هُمُومَةً و هَمَامَةً الرجلُ: آدمی کا بہت بوڑھا ہونا۔ هَمًّا و هَمِيمًا تْ خشاشُ الارضِ: زمین کے کیڑے مکوڑوں کا رینگنا۔ هَمْهَمَ ت المرأةُ في رأسِ الصبي: ماں کا بچہ کو لوری سے سلانا، کی جوئیں نکالنا۔ أَهَمَّ الامرُ فلانًا: کو کسی معاملہ کا بیقرار کرنا، رنجیدہ کرنا، غم میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے: أَهَمَّهُ الامرُ حتى هَمَّهُ: معاملہ نے اسے اتنا رنجیدہ کیا کہ اس کو گھلا ڈالا۔ الشيخُ: بوڑھے کا بہت بوڑھا ہونا۔ تَهَمَّمَ الشيءَ: چیز کو تلاش کرنا۔ کہا جاتا ہے: ذهبتُ أَتَهَمَّمُهُ: میں اسے تلاش کرتے ہوئے گیا۔ رأسه: کے سر سے جوئیں نکالنا۔ اِنْهَمَّ الشحمُ او البردُ: چربی یا اولے کا پگھلنا۔ العرقُ في جبينه: پسینہ کا پیشانی پر بہنا۔ ت البقولُ: ترکاریوں کا ہانڈیوں میں پکایا جانا۔ الشيخُ: شیخ کا بہت بوڑھا ہونا۔ اِهْتَمَّ الرجلُ: غمگین ہونا۔ له بامره: اس نے اس کے معاملات کا بندوبست کرنے میں بہت محنت اور کوشش کی۔ اِسْتَهَمَّ فلانٌ: اپنی قوم کے معاملات میں دلچسپی لینا۔ اِسْتَهَمَّ بالامر و في الامر: کو کسی امر میں دلچسپی لینے کے لئے کہنا۔ الهَامَّة جمع هَوَام: ہر زہریلا کیڑا، کبھی ہوام ایسے حشرات پر بھی بولا جاتا ہے جو قاتل نہیں ہوتے۔ ابوزيك هوامُّ رأسك: کیا تمہیں جوئیں تکلیف دیتی ہیں؟ یہاں هوام الرأس سے مراد جوئیں ہے۔ الهَمّ (مص) جمع هُمُوم: غم، ضروری بات جس کے کرنے کا انسان فکر مند ہو۔ کہا جاتا ہے: هذا رجلٌ هَمُّكَ من رجلٍ: یہ شخص تمہارے لئے فلاں شخص سے کافی ہے۔ هذا رجل هَمٌّ: یہ مرد اولوالعزم ہے۔ الهِمّ: دبلا پتلا۔ جمع أهمام: بہت بوڑھا آدمی۔ قدحٌ هِمٌّ: ٹوٹا ہوا پرانا پیالہ۔ الهِمَّة جمع هِمَّات و هَمَائِم: بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھی عورت۔ کہا جاتا ہے: هو رجلٌ هِمَّتُكَ من رجل: یہ شخص تمہارے لئے فلاں شخص سے کافی ہے۔ و الهِمَّة جمع هِمَم: منصوبہ، ہمت قصد ارادہ خواہش، ابتدائی ارادہ، پختہ ارادہ۔ کہا جاتا ہے له همة عالية: وہ بلند ارادہ رکھتا ہے۔ هو بعيد الهِمَّة: وہ بلند حوصلہ ہے۔ الهُمَام من الثلج او الشحم جمع هِمَام: پگھلی ہوئی برف یا چربی، بہادر اور سخی سردار، بلند ہمت بادشاہ۔ (ح): شیر۔ الهَمَّام: کسی کام کا ارادہ کر کے اسے کر گزرنے والا، پٹھلخور۔ ناقةٌ هَمُومٌ: خوش رفتار اونٹنی۔ سحابةٌ هَمُومٌ: بارش برسانے والا بادل۔ بئرٌ هَمُومٌ: بہت پانی والا کنواں۔ قَصَبٌ هَمُومٌ: ہوا سے ہلتا ہوا نرسل۔ الهَمِيم: سرایت۔ (کہا جاتا ہے: لِلشراب هَمِيمٌ في العظام: شراب ہڈیوں میں سرایت کر جاتی ہے)۔ من المطر: ہلکی بارش۔ الهَمِيمَة جمع هَمَائِم: چھوٹی چھوٹی بوندوں کی ہلکی بارش۔ التَهْمِيم: ہلکی بارش۔ المُهِمّ (فا) جمع مَهَام: شدید معاملہ، مشغول کرنے والا معاملہ۔ المُهِمَّة جمع مُهِمَّات: مُهِمّ کا مونث۔ المُهِمَّاتُ من الامور: اہم معاملات، رنجیدہ امور۔ مُهِمَّاتُ العساكر: فوجی ذخائر، فوجی یا جنگی سامان۔ کہا جاتا ہے: لا مَهَمَّةَ لي بذلك: میں اسے کرنے کا نہ ارادہ رکھتا ہوں اور نہ کروں گا۔ المَهْمُوم (مفع): مغموم، رنجیدہ، غمگین، پگھلا ہوا۔

۲۔ هَمْهَمَ هَمْهَمَةً: آہستہ بولنا، غم کی وجہ سے آواز کو سینہ میں پھرانا۔ الرعدُ: بادل کا گرجنا۔ الهَمْهَام: بہادر سخی سردار۔ (ح): شیر۔ الهَمْهَمَة و الهُمْهُومَة: اونٹوں کا بڑا گلہ۔ الهَمْهَمَة (م) جمع هَمَاهِم: گائیوں اور ہاتھیوں وغیرہ کی آواز، بیٹھی یا پڑی ہوئی آواز۔ الهُمْهُوم: آواز نکالنے والا۔ (ح): شیر، ہوا سے ہلتا ہوا نرسل۔ الهُمْهِيم (ح): شیر، گدھا جو اپنے سینہ میں اپنی رینگنے کی آواز پھرائے۔

۳۔ هَمْهَام (اسم فعل): کچھ باقی نہیں رہا۔

ت هَمَّ۔ هَمًّا و مَهَمَّةً ہ: کو بے چین کرنا، بیقرار کرنا، مشوش کرنا، رنجیدہ کرنا، کو رنج، تکلیف یا معصیت پہنچانا، کو مغموم کرنا، کو سوچ میں غرق کرنا، کو پہلے ہی قبضہ میں لے لینا، کو راغب کرنا، شوق دلانا، کی (میں) دلچسپی پیدا کرنا، سے غرض رکھنا، واسطہ رکھنا، کو توجہ دلانا۔ سے متعلق ہونا، سے واسطہ ہونا، سے غرض یا شوق رکھنا، سے تعلق یا سروکار رکھنا، لگاؤ رکھنا، کے دل کو لگنا، کے دل میں اتر جانا، کے دل پر اثر کرنا، کے لئے باعث دلچسپی ہونا، کے ذہن پر ہونا، معاملہ یا واسطہ ہونا، کے لئے اہم ہونا، کے لئے اہمیت رکھنا؛ کو پریشان کرنا، کو تکلیف دینا، زحمت دینا۔ ب: کے

متعلق سخت پریشان یا فکر مند ہونا، پریشان ہونا، کو ذہن میں رکھنا، کا ارادہ ہونا، کا منصوبہ بنانا، کی تیاری کرنا، کا پروگرام بنانا، کچھ کرنے پر غور کرنا، کچھ کرنے کا سوچنا۔ ـــ ب بان: کچھ کرنے کو ہونا، کو کرنے ہی لگنا، کچھ کرنے کا آغاز کرنا، کچھ کرنا شروع کرنا ـــ: اٹھنا۔ اهمّ د: کو رنجیدہ کرنا، دکھ پہنچانا، کو مغموم کرنا، کو رنج، تکلیف یا مصیبت پہنچانا، کو کسی خیال میں محو کر دینا، کے دل کو لگنا، کے دل میں اتر جانا، کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، کا لحاظ کرنا، کے ذہن پر ہونا، کا واسطہ ہونا، معاملہ ہونا، کو پریشان کرنا، کے لئے دلچسپی کا باعث ہونا، کو راغب کرنا، شوق دلانا، کی دلچسپی پیدا کرنا ـــ: اہم ہونا، ضروری ہونا۔ اهتـ ب: کی وجہ سے پریشان ہونا، رنجیدہ ہونا، کے متعلق پریشان ہونا ـــ ب (کبھی) سے دلچسپی لینا، میں مصروف ہونا ـــ ب: کے لئے تشویش محسوس کرنا، میں دلچسپی لینا، کو اہمیت دینا، میں دلچسپی رکھنا، کی دیکھ بھال کرنا، کی نگرانی کرنا، پر توجہ دینا، کا نوٹس لینا، کو ذہن میں رکھنا ـــ ل ب: کے لئے، کے متعلق یا کی خاطر یا طرف سے مصیبت اٹھانا، ہر طرح کی کوشش کرنا ـــ ب: کا خیال رکھنا، کی مدد کرنا، معاونت کرنا، کو اپنی زیر حمایت لینا، کے لئے تیار رہنا، کا اہتمام کرنا، کا سوچنا ـ ل: کے متعلق پریشان ہونا، متردد ہونا ـهَمّ جمع هُمُوم: پریشانی، تشویش، فکر مندی، وجہ تشویش، رنج یا پریشانی کا باعث، دکھ، رنج، غم، الم، ملال، اندوہ، غم کا باعث، افسوس، مصیبت، قہر، بپتا، ایذا، دکھ، تکلیف، دلچسپی، ارادہ، منصوبہ، مقصد، اہم معاملہ، وزن، لحہ، اہمیت۔

هِمّ جمع أهمام: مونث هِمَّة جمع هِمّات و هَمائِم: خستہ حال، زار و نزار، سٹھیایا ہوا، بوڑھا۔

هِمَّة جمع هِمَم: کوشش، عالی حوصلگی، بلند نظری، اولوالعزمی، حوصلہ مندی، آرزو، تمنا، ارادہ، مقصد، منصوبہ، عزم، عزم مصمم، پکا ارادہ، استقلال، ثابت قدمی، شوق، سرگرمی، جوش، گرم جوشی، لگن، دھن، عالی منشی، عالی ظرفی، بلند مقصد آرزو، تمنا ـبَعِيدُ الهِمَّة و عالِيُ الهِمَّة: بہت اونچی باتیں سوچنے والا، دوررس مقاصد والا، عالی منش، عالی ظرف ـهَمَّام: پریشان، متردد، شائق متمنی، شوقین، سرگرم: توانا، طاقتور، مستعد، باہمت ـهُمَام جمع هِمام: عالی منش، عالی ظرف، سخی، فراخدل، ہیرو کا (سا)، بہادر، دلبر، شجاع ـأَهَمّ: زیادہ اہم، زیادہ اہمیت کا حامل ـأَهَمِّيَّة: اہمیت، دلچسپی ـعَدِيمُ الأَهَمِّيَّة: غیر اہم ـعَلَّقَ اهمية على: کو اہمیت دینا ـكان من الأهمية بمكانٍ عظيم: انتہائی اہمیت کا حامل ہونا ـمَهَمَّة جمع مَهَام: اہم معاملہ، کام، فرض، فریضہ منصوبہ، ذمہ داری، تفویض، مقصد، مشن ـمَهَامُ الأُمور: اہم معاملات ـمَهامُ المَنْصَب: سرکاری فرائض، سرکاری کام ـتَهميم: لوری ـتَهميمة: لوری ـهامّ: اہم، بہت اہم، بہت بھاری، وزنی، سخت اہم، سنگین، سنجیدہ، قابل توجہ دلچسپ ـهامَّة جمع هَوامّ: چھوٹے ضرر رساں جانور یا کیڑے مکوڑے، تباہ کن کیڑے مکوڑے وغیرہ، رینگنے والا جانور ـمَهْمُوم: پریشان، مصیبت زدہ، رنجیدہ، غمگین، غم زدہ، ملول، سوچ میں غرق، مطلبی، غرض مند، دلچسپی رکھنے والا۔ مُهِمّ: اہم، وزنی، نہایت اہم، ضروری، مہتم بالشان، سنگین دلچسپ ـمُهِمَّة جمع مُهِمّات: اہم معاملہ (جمع) ضروریات، شدید یا اہم ضروریات، ساز و سامان اشیائے ضروریہ، مسالہ، سامان، ذخائر، فوجی ضروریات، رسد، بہم پہنچائی ہوئی چیزیں، اشیائے خوردنی ـمُهِمّات حربية: جنگی سامان ـمُهِمّاتٌ مُتَحَرِّكَة: محکمہ ریل کے انجن کے ڈبے وغیرہ۔ مُهْتَمّ ب: میں دلچسپی لینے والا، کے متعلق پریشان متردد، پر متوجہ کا خیال رکھنے والا ـمُهِمّاتٌ: دیئے ہوئے کام، مفوضہ کام، فرائض منصبی، وظائف۔

هُما: وہ دونوں، وہ دو ـهُمايوني: شہنشاہی، خسروی، خسروانہ۔

هما: هَمَأَ يَهْمَأُ هَمْأً الثوبَ: کپڑے کو کھینچ کر پھاڑنا، کپڑے کو پرانا کرنا، بوسیدہ کرنا ـتَهَمَّأَ الثوبُ: کپڑے کو پھاڑنا، پرانا کرنا ـتَهَمَّأَ و إنْهَمَأَ الثوبُ: کپڑے کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ الهِمْءُ جمع أَهْمَاء: پھٹا ہوا پرانا کپڑا۔

همت: هَمَتَ ـهَمْتًا الثريدُ: ثرید کا چکنائی والا ہونا۔ أَهْمَتَ الكلامَ او الضحكَ: کلام یا ہنسی کو چھپانا۔

همج: هَمَجَ ـهَمْجًا: بھوکا ہونا ـــ تِ الابلُ من الماء: اونٹوں کا ایک بار پانی پی کر سیراب ہونا۔ صفت هَوامِج ـأَهْمَجَ الفرسُ: گھوڑے کا پوری رفتار سے دوڑنا ـــ الشيءَ: چیز کو چھپانا ـاِهْتَمَجَ الرجلُ: مرد کا کمزور ہونا ـــ وجهُهُ: کا چہرہ پژمردہ ہونا ـالهامِج (فا): انبوہ جس کا کوئی قائد نہ ہو۔ ریوڑ جس کا چرواہا نہ ہو، فوج جس کا کوئی افسر نہ ہو۔ کہا جاتا ہے هَمَجٌ هامِجٌ: رذیل لوگ ـالهَمَجُ (مص) واحد هَمَجَة: بھوک، دبلی بکریاں، ایک قسم کا مچھر، چھوٹی مکھیاں، بدانتظامی ـجمع أَهْماج ـــ: بیوقوف عامة الناس۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ هَمَجٌ و هَمَجَةٌ و امرأةٌ هَمَجَةٌ و رِجالٌ هَمَجٌ: بیوقوف مرد، عورت اور بہت سے بے وقوف مرد ـقومٌ هَمَجٌ: بے خیر لوگ۔ الهَمِيجُ من الظباء: جوان خوبصورت جسم کا ہرن۔ ـ من الرجال: پتلے پیٹ والا۔

هَمَج: (اسم جنس واحد هَمَجة جمع أَهْماج: چھوٹی مکھیاں، گنتیاں، کمینے، گھٹیا لوگ، اراذل، بھیڑ، ہجوم، وحشی، غیر مہذب لوگ ـهَمَج: بھوک ـهَمَجٌ هامِجٌ: بے حد بھوک ـهَمَجي: غیر مہذب، وحشی، بداخلاق، بے سلیقہ، بے ادب، بدتمیز، تیز و تند، وحشیانہ، اکھڑ، ناشائستہ، جنگلی، خونخوار وحشی ـهَمَجِيَّة: بربریت، سنگدلی، بے رحمی، سفاکی، خونخواری، وحشیانہ حالت، تندی، بے ہودگی، بدتہذیبی، بدتمیزی، اکھڑپن، جہالت وحشت۔

همد: اهَمَدَ ـهُمُودًا تِ النارُ: آگ کا بجھنا، ٹھنڈا ہونا ـــ القومُ: لوگوں کا مرنا (کہا جاتا ہے كادَ يَهْمُدُ من الجوع: بھوک سے مرنے لگنا صفت: هَامِد و هَمِدٌ و هَمِيد) ـ ت اصواتُهم: کی آوازوں کا بند ہو جانا ـهَمْدًا و هُمُودًا ت الارضُ: زمین کا بنجر ہونا، بے آب و گیاہ ہونا ـــ شجرُ الارض: درختوں کا گھٹتے گھٹتے کم ہو جانا یا ختم ہو جانا۔ ـــ الثوبُ: کپڑے کا عرصہ تک لپٹے لپٹے تہوں پر سے پھٹ جانا۔ صفت هامِد جمع هُمَّد ـهَمَّدَهُ: کو بجھانا ـأَهْمَدَ في المكان: کسی جگہ میں اقامت کرنا ـ ت الريحُ: ہوا کا ساکن ہونا ـ تِ الهديةُ غضبَهُ: تحفہ کا کسی کے غصہ کو دھیما کرنا ـــ فلانٌ: تکلیفوں میں چپ رہنا ـــ ت اصواتُ القوم: لوگوں کی آوازوں کا خاموش ہو جانا ـــ القحطُ الارضَ: قحط کا زمین کی نباتات کو سکھا دینا۔ کہا جاتا ہے اتوا على قوم فأهمدوهم: وہ لوگوں پر آئے اور انہیں موت سے ہمکنار کر دیا۔ الهامِد (فا) جمع هَوامِد: متغیر بوسیدہ سیاہ، خشک نباتات اور درخت، بنجر جگہ ـالهَمْدَة: خاموشی۔ المِهْماد (اع): آواز وغیرہ کو کمزور کرنے کا آلہ۔

۲ أَهْمَدَ في السير: جلدی چلنا ـــ القومُ في الطعام: کھانے پر ٹوٹ پڑنا ـــ الكلبُ: کتے کا تیز دوڑنا۔

هَمَدَ ـهُمُودًا: کم ہونا، مدھم پڑنا، گھٹ جانا، بیٹھ جانا، دب جانا، دھنس جانا، مدہم ہونا، فرو ہونا، ساکن ہونا، ختم ہونا، مر جانا، فنا ہونا، مرجھانا، سوکھنا، خشک ہونا، ٹھنڈا ہونا، چھوٹا ہو جانا، سکڑ جانا ـهَمَّدَ و أَهْمَدَهُ:

کو چپ کرنا، ساکن کرنا، بند کرنا، تسکین دینا، کا جوش فرو کرنا، کو دھیما کرنا، کا غصہ ٹھنڈا کرنا، تکلیف کو کم کرنا، گھٹانا، کو دبا دینا، فرو کرنا، بجھانا۔ هُمُود: نیستی، فنا، مٹنا، باقی نہ رہنا، (جوش وغیرہ) کا ٹھنڈا ہونا، فرو ہونا، کم ہونا، تھکن، تکان، سستی، کمزوری، ناتوانی، بے حرکتی، بے حسی، عدم دلچسپی، سختی، عدم لچک، موت۔ هَامِد: خاموش، ٹھنڈا، ٹھنڈی، بجھی ہوئی ناپید، بے جان، سخت (لاش)۔

همذ: الهَمَاذِی: تیز رفتاری (کہا جاتا ہے: اِنَّهُ لَذُو هَمَاذِیَ فی جريه. وہ دوڑنے میں تیز رفتار ہے)۔ تیز رفتار اونٹنی یا اونٹ، گرمی یا بارش کی شدت۔ هَمَذَانُ: ایک شہر کا نام۔ الهماذانی: همذان کا، همذانی، همذان کا باشندہ، بہت بولنے والا، گپی، باتونی۔ ـــ من المشی: ایک قسم کی چال کی دوسری قسم میں آمیزش۔ کہا جاتا ہے: هو یمشی هَمَذَانِیاً: وہ طرح طرح کی چالیں چلتا ہے۔

همر: ۱۔ هَمَرَ۔هَمْراً الماءَ: پانی گرانا۔ ـ الماءُ: پانی کا گرنا۔ کہا جاتا ہے: همرت العینُ بالدمع: آنکھ کا آنسو گرانا۔ ـ ما فی الضرع: تھن کا سب دودھ دوہ لینا۔ ـــ لفلانٍ من مالِهِ: فلاں کو اپنا مال دینا۔ ـــ البناءَ: عمارت ڈھانا۔ ـ الفرسُ الارضَ: گھوڑے کا زمین کو ٹاپوں سے زور سے مارنا۔ ـ الکلام و فی الکلام: بہت بولنا۔ هَامَرَ مُهَامَرَةً الشیءَ: چیز کو لینا، لیجانا۔ اِنْهَمَرَ الماءُ: پانی کا گرنا، بہنا۔ ـــ البناءُ: عمارت کا گرنا۔ ـــ ت الشجرةُ: درخت کا جھڑے ہوئے پتوں والا ہونا۔ اِهْتَمَرَ الفرسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔ ـــ الفرسُ الارضَ: گھوڑے کا زمین کو ٹاپوں سے مارنا۔ الهَامِر (فا): سحابٌ هامِرٌ: بہت برسنے والا بادل۔ رملٌ هَامِرٌ: بہت ریت۔ الهَمِر: موٹا آدمی۔ الهَمْرَة: همر کا اسم مرة۔ بارش کی بوچھاڑ، غصہ سے بھری ہوئی گفتگو۔ الهَمَّار من السحاب: بہت برسنے والا بادل۔ ـــ من الرجال: بہت بکواسی، بڑا۔ الهَمِیرَة و الهَمِیر: بہت بوڑھی عورت۔ المِهْمَار: مہمانوں کی بہت ضیافت کرنے والا، بہت بکواسی، بڑا۔ الیَهْمُور: بہت بک بک کرنے والا، بہت ریت۔

۲۔ هَمْرَجَ علیه الخبرَ: سے گڈمڈ خبر بیان کرنا۔ الهَمْرَجَة: خبر کی گڑبڑی، اختلاط آمیزش، خفت، سرعت، لوگوں کا شور، باطل۔ الهُمْرُجَان: لوگوں کا شور۔

۳۔ تَهَمْرَشَ القومُ: لوگوں کا حرکت میں آنا۔ اسم: الهَمْرَشَةَ۔ الهَمَرْش: حرکت۔ الهَمَرِش: بہت بوڑھی عورت، بہت دودھ والی اونٹنی۔ المِهْمَار: مہمانوں کی بہت ضیافت کرنے والا، بہت بک بک کرنے والا۔ المِهْمَر: بہت بک بک کرنے والا۔ الیَهْمُور: بمعنی المهمار، بہت ریت۔

○ هَمَرَ۔هَمْراً ہ: (پانی، آنسو) گرانا، بہانا۔ اِنْهَمَرَ: گرنا، بہنا، (بارش کا) برسنا، (آنسوؤں کا) بہنا۔ هَمْرَة: بارش کی بوچھاڑ، غراہٹ، غرّانا۔

همز: هَمَزَ۔هَمْزاً ہُ: کی چٹکی لینا، کو دبانا، کو چبھونا، ہٹانا، مارنا، دانتوں سے کاٹنا، کی غیبت کرنا (صفت: هَمَّاز و هُمَزَة) کو توڑنا۔ ـ به الارضَ: کو زمین پر پچھاڑنا۔ ـ الفرسَ: گھوڑے کو مہمیز چبھونا تاکہ وہ دوڑے۔ ـ العنبَ او رأسَهُ: انگور نچوڑنا۔ ـــ الشیطانُ الانسانَ: شیطان کا انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا۔ ـــ الکلمةَ او الحرفَ: کلمہ یا حرف کو ہمزہ کے ساتھ بولنا یا کلمہ اور حرف پر ہمزہ لگانا۔ اِنْهَمَزَت الکلمةُ او الحرفُ: کلمہ یا لفظ کا ہمزہ کے ساتھ پڑھا جانا یا کلمہ یا حرف کا ہمزہ کی علامت والا ہونا۔ الهَامِز (فا) جمع هُمَّاز و هَامِزُون: بڑا عیب گیر۔ الهَمْز مص۔ هَمْزُ الشیطان: جنون۔ (هَمَزَاتُ الشیطان شیطانی وسوسے)۔ الهَمْزَة جمع هَمَزَات: همز کا اسم مرہ حروف تہجی کا پہلا حرف۔ الهُمَزَة: نکتہ چین، بہت عیب گیر۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ هُمَزَةٌ و امرأةٌ هُمَزَةٌ: بہت نکتہ چین یا عیب گیر مرد اور عورت۔ ریحٌ هَمَزَةٌ: سخت آواز والی ہوا۔ قوسٌ هَمَزَی: تیر کو دور پھینکنے والی کمان۔ الهَمَّاز: عیب گیر، طعن و تشنیع کرنے والا۔ قوسٌ هَمُوزٌ: تیر کو دور پھینکنے والی کمان۔ رجلٌ هَمِیزُ الفؤاد: تیز فہم آدمی۔ المِهْمَز و المِهْمَاز جمع مَهَامِز و مَهَامِیز: مہمیز، ایڑ۔ المِهْمَزَة: چابک، لاٹھی یا ڈنڈا جس کے سرے پر لوہے کی کیل لگی ہو۔

○ هَمْزٌ: ایڑ لگانا، آنکس مارنا، چھیڑنا، چبھونا، آگے بڑھانا، دبانا، مارنا، ضرب لگانا، ٹھوکر لگانا، لات مارنا، چغل خوری، بہتان، تہمت۔ هَمْزٌ و لَمْزٌ: طعنے، بدنام کن یا ہتک آمیز چوٹیں یا درپردہ الزامات، آوازے، طنزیں۔ هَمْزَةُ الوصل بین: کے مابین تعلق پیدا کرنے والا رابطہ، تعلق واسطہ یا کڑی یا حلقہ۔ هَمَّاز: چغل خور، غیبت کرنے والا، بہتان لگانے والا۔ مِهْمَز جمع مَهَامِز: مہمیز، ایڑ، آر، آنکس، اکسانے والی چیز۔ مِهْمَاز جمع مَهَامِیز: مہمیز، ایڑ، آر، آنکس، اکسانے والی چیز۔

همس: هَمَسَ۔هَمْساً الصوتَ: آواز کو دھیما کرنا۔ ـ اِلَیَّ بحدیثِهِ: اس نے میرے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کیں۔ ـــ الطعامَ: منہ بند کر کے کھانا چبانا۔ ـــ الشیطانُ: شیطان کا وسوسہ ڈالنا۔ ـــ بالقدم: قدم آہستہ رکھنا۔ ـ الرجُلُ: رات میں بغیر سستی کے چلنا۔ ـــ العنبَ: انگور نچوڑنا۔ ـــ الشیءَ: چیز کو توڑنا۔ هَامَسَ مُهَامَسَةً ہُ: سے آہستہ آہستہ باتیں کرنا۔ تَهَامَسَا: آپس میں آہستہ کلام کرنا۔ کہا جاتا ہے: تهامَسُوا سِرًّا: انہوں نے تخلیہ میں آہستہ آہستہ گفتگو کی۔ الهَمْس (مص): آہستہ آواز، قدموں کی آہٹ۔ کہا جاتا ہے: هو یطأ الارضَ هَمْساً و یتکلم هَمْساً: وہ زمین پر آہستہ چلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ باتیں کرتا ہے۔ هو یاکل هَمْساً: وہ کھاتے وقت منہ نہیں کھولتا۔ اخذتُه اخذاً هَمْساً: میں نے اس کو سختی سے پکڑا۔ الهَمَّاس: مبالغہ کا صیغہ، سرگوشی کرنے والا، نرم خرام، شیر جو اپنے شکار کو پامال کر دے۔ الهَمُوس: رات کو چلنے والا، آہستہ قدم چلنے والا شیر، شکار کو پامال کرنے والا شیر۔ الهَمِیس: بے آواز چلنا، اونٹوں کے پاؤں کی آہٹ۔ المَهْمُوس (مفع) من الکلام: غیر واضح کلام۔ ـــ من الحروف: آہستہ بولا ہوا حرف، نرم حرف حروف مہموسہ دس ہیں جو اس قول میں آجاتے ہیں: حَثَّهُ شَخْصٌ فَسَکَتَ۔

○ هَمَسَ۔هَمْساً: منہ ہی منہ میں کہنا، اس طرح بولنا کہ سنائی نہ دے، منہ بند کر کے کھانا، بڑبڑانا۔ ـــ ب الی: کے کان میں کچھ کہنا، سے سرگوشی کرنا۔ هَمَسَ فی اذنه: کے کان میں سرگوشی کرنا۔ تَهَامَسَ: آپس میں سرگوشی کرنا، سرگوشی میں کی گئی باتوں کا تبادلہ کرنا۔ هَمْسَة: سرگوشی، جمع هَمَسَات: سرگوشی کرنا، کان میں کہنا، سرگوشیاں۔ هَوَامِس: وہ الفاظ جو سرگوشی میں کہے جائیں۔

همش: هَمَشَ۔هَمْشاً الشیءَ: چیز کو جمع کرنا۔ ـــ فلاناً: کسی کو دانت سے کاٹنا۔ ـ هَمْشاً و هَمِشَ۔هَمَشاً الرجُلُ: غلط باتیں بہت بولنا۔ ـــ القومُ: بولنا اور حرکت میں آنا۔ ـــ الجرادُ: ٹڈیوں کا ظاہر ہونے کے لئے حرکت میں آنا۔ هَامَشَ مُهَامَشَةً ہُ: سے جلدی کرانا۔ تَهَمَّشَ الشیءُ: چیز کا کھایا جانا۔ ـــ مُنْبَطُ البئر: کنویں کی سوت کا جاری ہونا۔ تَهَامَشَ القومُ: لوگوں کا ایک دوسرے میں داخل ہو کر حرکت میں آنا۔ اِهْتَمَشَ القومُ: لوگوں کا آپس میں گھل مل جانا اور آگے پیچھے ہونا۔ ـــ ت الدابةُ او

الجرادُ: جانور یا ٹڈیوں کا آہستہ چلنا۔الھامِش (فا): کتاب کا حاشیہ۔الھَمْش (مص): کھانے کی تیزی۔الھَمِش: انگلیوں سے پھرتی سے کام کرنے والا۔کہاجاتا ہے امرأۃٌ ھَمَشَی او ھَمَشَی الحدیث: بہت بولنے اور شور کرنے والی عورت۔الھَمِیشة: پکائی ہوئی ٹڈیاں۔

☜ ھَامِش کسی کتاب یا صفحہ وغیرہ کا حاشیہ۔علی ھامِش کے محیط میں، کے ضمن میں، سے ایک طرف، اس سلسلہ میں، اس ضمن میں، کے موقعہ پر، بسلسلہ، دربارہ۔ علی ھامِش الاخبار: خبروں کی ضمنی شرحیں (بی بی سی کی خبروں پر تبصرہ کا نام)۔ ھامشی: حاشیہ کا، حاشیہ سے متعلق۔

همط: ھَمَطَ -ھَمْطاً الرجلُ: ظلم کرنا، بولنے اور کھانے میں پروانہ کرنا۔۔۔ الشیءَ: چیز بے اندازہ لینا۔۔۔ المالَ مال زبردستی لینا۔تَھَمَّطَ المالَ: مال زبردستی لینا۔اِھتَمط المالَ: مال زبردستی لینا۔ عِرْضَ فلانٍ: کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو گالی دینا۔۔۔ الذِئبُ الشاةَ: بھیڑیے کا بکری کو پکڑ لینا۔ الھَمَّاط: ظالم۔

همع: ۱۔ھَمَعَ -ھَمْعًا و ھَمَعًا و ھُمُوعًا و ھَمَعَانًا و تَھْمَاعًا تِ العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔ھمعت العین بالدمع: آنکھ نے آنسو بہائے۔ھمع الطلُّ علی الشجرة: درخت پر شبنم کا گرنا۔۔۔ رأسَهُ: کا سر زخمی کرنا۔أَھْمَع الدمعُ و نحوهُ: آنسو وغیرہ کا بہنا۔۔۔ الطلُّ: شبنم کا درخت پر گرنا۔تَھَمَّعَ الطلُّ: شبنم کا گرنا بہنا۔۔۔ الرجُلُ: رونے کا بہانہ کرنا، جھوٹ موٹ رونا۔۔۔ الدمعُ و نحوهُ: آنسو وغیرہ کا بہنا۔الھَامِعَة جمع ھَوَامِع: ھامع کا مؤنث۔ دموعٌ ھَوَامعُ: بہنے والے آنسو۔سحابٌ ھَمِعٌ: برسنے والا بادل۔عینٌ ھَمِعَةٌ: آنسو بہنے والی آنکھ۔ الھَمُوع: بہنے والا۔الھَیْمَع: ناگہانی موت۔

۲۔اُھْتُمِع لونُهُ: کا رنگ متغیر ہونا۔

همغ: ھَمَغَ -ھَمْغًا رأسَهُ: کا سر پھوڑنا۔اِنْھَمَغَ تِ الرطبةُ: تر کھجور کا پھٹ جانا۔۔۔ ت القرحةُ: زخم کا تر ہونا۔الھَیْمَغ: موت، ناگہانی موت۔

همك: ھَمَكَ -ھَمْكًا ہُ فی الامر: کو کسی کام کے لئے اکسانا۔تَھَمَّكَ و اِنْھَمَكَ فی الامر: کسی کام میں بہت مشغول ہونا، منہمک ہونا۔اِھْمَاكَّ اھْمِیکَاکًا الرجُلُ: مرد کا غصہ سے بھر جانا۔صفت مُھْمَكٌّ۔

☜ ھَمَكَ -ھَمْكًا ہُ فی: پر کچھ کرنے کے لئے زور دینا، زور ڈالنا۔اِنْھَمَكَ فی: میں منہمک ہونا، مکمل طور پر مشغول ہونا، کیلئے وقف ہونا، میں مستغرق ہونا، میں گم، غرق یا محو ہونا، کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہونا۔۔۔ فی/علی: کا ہو رہنا، کے پیچھے اندھا ہو جانا۔اِنھماك: انہماک، مکمل وقف، مشغولیت، دھن، عمل انجذاب، استغراق، محویت، مشغولیت۔مُنْھَمِك فی: میں منہمک، مکمل طور پر مشغول، مستغرق، گم، غرق یا محو، کیلئے وقف، کا عادی۔

همل: ۱۔ھَمَلَ -ھَمْلاً تِ الإبلُ: اونٹوں کا بغیر چرواہے کے دن رات آزاد پھرنا۔صفت ھَامِل جمع ھَوَامِل و ھَمُولَة و ھَامِلَة و ھَمَل و ھُمَّل و ھُمَّال و ھَمْلَی۔ -ھَمْلاً و ھَمَلانًا و ھُمُولاً ت عینُهُ: کی آنکھ کا آنسو بہانا۔۔۔ تِ السماءُ: آسمان کا بارش آہستہ آہستہ برسانا۔أَھْمَلَ ہُ: کو قصدًا یا بھولے سے چھوڑ دینا۔۔۔ امرَهُ: کو پختہ نہ کرنا۔۔۔ الحرفَ: حرف پر نقطے نہ لگانا۔تَھَامَلَ فی الامر: کام میں سست ہونا، میں تاخیر کرنا، بے پروائی کرنا، غفلت کرنا (عام زبان میں)۔اِنْھَمَلَ تْ عینُهُ: کی آنکھ کا آنسو بہانا۔۔۔ السماءُ: آسمان کا پیہم بارش برسانا۔الھِمْل: پیوند لگا کپڑا۔الھَمَل: بے روک بہنے والا پانی، اتارا ہوا چھلکا۔۔ من الإبل: دن رات چرواہے کے بغیر من چرنے والا اونٹ۔الھَمِل: سن رسیدہ، بڑی عمر والا۔الھُمَّال: ویران زمین، نرم۔ الھَمَالِیل: بقیہ چارہ، پھٹا ہوا کپڑا۔المُھْمَل (مفع) من الکلام: غیر مستعمل کلام۔۔۔ من الحروف: نقطوں کے بغیر حرف۔

۲۔الھَمَل: چھوٹا گھر۔

۳۔ھَمْلَجَ ھَمْلَجَةً البرذونُ: ٹٹو یا گھوڑے کا نرم اور تیز چلنا، اچھی چال چلنا۔الھِمْلاج جمع ھَمَالِیج: اچھی چال چلنے والا ٹٹو یا گھوڑا۔دابَّةٌ ھِمْلاجٌ: اچھی تیز چال چلنے والا جانور۔(مذکر مونث)

۴۔الھَمَلَع مونث ھَمَلَّعَة: بے وفا، تیز رفتار اونٹ، تیز چلنے والا آدمی زمین کو زور سے روندتا جائے۔

۵۔ھَمْلَقَ ھَمْلَقَةً: جلدی کرنا۔

☜ ھَمَلَ -ھَمْلاً و ھَمَلانًا و ھُمُولاً: آنکھ کا آنسو بہانا، آنسوؤں سے تر ہونا۔أَھْمَلَ ہ: کو نظر انداز کرنا، چھوڑ دینا، پر التفات نہ کرنا، کی پروانہ کرنا، کا لحاظ نہ کرنا، کو نہ سوچنا یا نہ دیکھنا، پر غور نہ کرنا، سے چشم پوشی کرنا، کو بھلا دینا، بھول جانا، کو استعمال نہ کرنا، کو استعمال کرنا بند کر دینا، (حرف) کو بے نقطوں کے چھوڑ دینا، یا حرف پر نقطے نہ لگانا۔تَھَامَلَ: لاپروا ہونا، سست ہونا، غفلت کرنا، نافرض شناس ہونا۔اِنْھَمَلَ: آنکھ کا آنسوؤں سے تر ہونا، آنسو بہانا۔(بارش کا) برسنا۔ھَمَل: اپنے آپ پر چھوڑا ہوا، اپنے منصوبوں پر چھوڑا ہوا، تنہا چھوڑا ہوا، چرواہے کے بغیر مویشی، نظر انداز کیا ہوا، لحاظ نہ کیا ہوا، بے التفاتی کیا ہوا، بے اعتنائی، بے توجہی کیا ہوا۔اِھْمَال: بے پروائی، بے توجہی، تغافل، فروگزاشت، فرائض سے لاپرواہی یا غفلت، ترک فرض، لغزش، قصور، عدم توجہ، نہ دیکھنا، عدم لحاظ، عدم غور۔ھَامِل جمع ھُمَّل: ادھر ادھر منہ اٹھائے پھرنے والا، مارا مارا پھرنے والا، آوارہ گرد، بے خانماں، خانہ بدوش۔مُھْمِل: بے پروا، غافل، غفلت شعار، سہل انگار، فرض ناشناس، بے توجہ، پھوہڑ، بے سلیقہ۔مُھْمَل: نظر انداز کیا ہوا، چھوڑا ہوا، لحاظ نہ کیا ہوا، خاطر میں نہ لایا ہوا، اہمیت نہ دیا گیا، خیال نہ رکھا ہوا، متروک، غیر مروجہ، پرانا، کہنہ، فرسودہ، محروم، نقطوں کے بغیر (حرف)۔المُھْمَلات: دفتر لاپتہ خط (dead letter office)۔مھمل الامضاء: بے دستخط، دستخطوں کے بغیر۔رسالة مُھْمَلة: خط جو مرسل الیہ کو پہنچانے کے قابل نہ ہو۔سَلَّة المُھْمَلات: ردی کی ٹوکری۔کَمِیَّةٌ مُھْمَلَة: ناقابل ذکر مقدار۔ھَمْلَجَ: دوگامہ چلنا، دلکی چال چلنا۔ھِمْلاج جمع همالیج: دلکی دوگامہ چال چلنے والا، سبک خرام (گھوڑا)۔

همو: ھَمَا یَھْمُو ھَمْوًا الماءُ او الدمعُ: پانی یا آنسو کا بے روک بہنا۔

همی: ھَمَی یَھْمِی ھَمْیًا الشیءُ: ضائع ہو جانا، گرنا۔ ۔۔ ھَمْیًا و ھُمِیًّا و ھَمَیَانًا الماءُ او الدمعُ: پانی یا آنسو کا بے روک بہنا۔۔۔ ت العینُ: آنکھ کا آنسو بہانا۔۔ ت الماشیةُ: مویشی کا چرنے کے لئے اِدھر اُدھر پھیل جانا۔الھَامِیَة جمع ھَوَامٍ: اسم فاعل مونث۔ھَوَامِیُ الإبل: چراگاہ کے گمشدہ اونٹ۔ ھُمَایُون: (فارسی لفظ) ایک قسم کا خیالی پرندہ جس کے بارے میں خیال ہے کہ جس کے سر پر یہ سایہ فگن ہو جائے وہ اعلی مرتبہ پر پہنچتا ہے، بادشاہ۔بابُ ھُمَایُون: سلطان کا دروازہ۔الھِمْیَان جمع ھَمَایین: (فارسی لفظ): پٹکا، کمر بند، کمر سے باندھی جانے والی تھیلی جس میں نقدی وغیرہ رکھی جاتی ہے۔

هن: ۱۔ھَنَّ -ھَنًّا و ھَنِینًا: رونا۔۔ الیه: کا آرزومند ہونا۔الھَنَّانَة: رونے والی عورت۔

۲۔اَھَنَّ الجمَلَ: اونٹ کو قوی کرنا۔صفت مفعولی: مَھْنُون: یہ صفت خلاف قیاس ہے)۔الھَانَّة و الھُنَانَة: آنکھ کی پتلی کے نیچے کی چربی۔کہا جاتا ہے:

مابہ هَانَةٌ: اس میں کوئی خیر نہیں۔

۳۔ هَـنَا (هاء کی تثلیث کے ساتھ) دور جگہ کے لئے اسم اشارہ کہا جاتا ہے: تَنَحَّ هَاهُنَا و هَاهُنَا او هَهُنَا: وہ تھوڑا دور گیا۔

هُنَّ: وہ (عورتیں)۔ هُنا و هَهُنا: یہاں، یہاں پر، اس جگہ میں۔ هَـنا: وہاں، تب، اب، اب تک، اس جگہ۔ الی هُنا یا لِهُنا: یہاں، یہاں پر، اسجگہ تک، یہاں تک، اب تک، اسی جگہ (نقطہ) تک، اس مقدار تک۔ مِن هُنا: یہاں سے، اس کا، اس سے، یہاں سے، اب سے، اس لئے، لہٰذا، اس وجہ سے، بذریعہ بذا۔ هُنا و هُنالِکَ: یہاں وہاں، ادھر اُدھر۔ هُنَاكَ و هُنالِكَ: وہاں، وہاں پر، اُس جگہ (میں)، ہے، ہیں۔ هُناكَ فوء ماتور: ایک ضرب المثل، کہاوت، مثل یا مقولہ ہے۔ الی هُناكَ: وہاں، وہاں پر، اُس جگہ تک۔ مِن هُناكَ: وہاں سے، اُس جگہ سے۔ ماذا هُنالِكَ؟: کیا بات ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟۔

هنا: ۱۔ هَنَأَ يَهْنُو و يَهْنِي هَنأً: کو کھلانا۔ — فلاناً: کو دینا۔ — الابِلَ: اونٹ پر قطران ملنا۔ — الرجُلَ: کی مدد کرنا۔ يَهْنِئ و يَهْنَأُ و يَهْنُؤُ هِنأً و هَنأً و هَنَاءَةً الطعامُ الرجُلَ و لِلرجُلِ: خوراک کا آدمی کے لئے خوشگوار ہونا۔ کہا جاتا ہے: هَنأتنيهِ العافية: صحت نے اس کو میرے لئے خوشگوار کر دیا۔ عرب دعا دیتے وقت کہتے ہیں: لِيَهْنِئكَ الولدُ: بیٹا تجھے خوش کرے!۔ يَهْنَأُ هَنأً و بالامر: سے لِيَهْنِئكَ کہنا۔ — هَنأً و هِنأً و هَنَاءَةً الطعامَ: کھانے کو موزوں بنانا۔ هَنِئَ- هَنَاءً و هَنأً بهِ: سے خوش ہونا۔ — الطعامُ: کھانے کو مزے دار پانا۔ کہا جاتا ہے: اکلنا من هذا الطعام حتى هَنِئناهُ: ہم نے سیر ہونے تک یہ کھانا کھایا۔ هَنُؤَ يَهْنُؤُ هَنَاءَةً و هَنَاةً و هَنأً: بغیر تکلیف و مشقت کے حاصل ہونا۔ هَنَّأَ تَهْنِئاً و تَهْنِئَةً بكذا: کو پر مبارکباد دینا۔ أهْنَأَ إهْنَاءً: کو دینا۔ تَهَنَّأَ تَهَنُّؤاً بهِ: سے خوش ہونا۔ — بالطعام: کھانے سے مزا لینا، لذت حاصل کرنا۔ اِهْتَنَأَ اِهْتِنَاءً مالَهُ: کا مال درست کرنا۔ اِسْتَهْنَأَ اِسْتِهْنَاءً الطعامَ: کھانے کو خوشگوار سمجھنا۔ — هُ: سے مدد چاہنا، سے عطیہ مانگنا۔ الهانِئ (فا): خادم۔ الهِنْءُ: عطیہ، تارکول کا طلا۔ الهِناء: تارکول۔ الهَنِيءُ: خوشگوار، بلا مشقت دستیاب شدہ۔ هذا امر اتاك هَنِيئاً: یہ امر تجھے مشقت کے بغیر ملا۔ اكلتهُ هَنِيئاً مَرِيئاً: میں نے اس کو کسی مشقت کے بغیر کھا لیا۔ هَنِيئاً لكَ: یہ تمہارے لئے بلا مشقت کے ہے۔ المَهْنَأُ: بلا مشقت ملنے والی چیز۔

۲۔ الهِنْءُ: رات کا ایک پہر۔ الهِناء: کھجوروں کا گچھا۔

هَنَأَ- هَنأً و هِنأً و هَنَاءً ا ه/ل: کے لئے منفعت بخش ہونا، خوشگوار ہونا، صحت بخش ہونا، فائدہ بخش ہونا، مفید ہونا، سود مند ہونا، سے بھلائی کرنا۔ هَنِئَ- هَنَأَ ب: سے خوش ہونا، محظوظ ہونا، سے لطف اندوز ہونا، کا لطف اٹھانا، سے استفادہ کرنا۔ هَنَّأَ ه ب/على: کو پر یا کے موقع پر مبارکباد دینا یا مبارکباد کہنا۔ — ہ: کو خوش کرنا۔ تَهَنَّأَ ب: سے لطف اندوز ہونا، کا لطف اٹھانا، سے استفادہ کرنا۔ هَنِيء: صحت بخش، خوشگوار، پر لطف، پسندیدہ، دل پذیر، موافق، مطابق، آسان، ہموار، آرام دہ۔ هَنِيئاً لكَ یا هَنِيئاً مَرِيئاً: یہ تمہارے لئے بہت مفید ہوگا، مجھے امید ہے تم اس (کھانے) سے لطف اندوز ہوگے۔ تَهْنِئة جمع تَهانِئ: مبارکباد، بدھائی، تہنیت، مبارکبادی۔ هانِئ: خوش، مسرور، خوش و خرم، خادم۔ هانِئة: خادمہ۔ مُهَنِّئ: مبارکباد دینے والا، بہی خواہ، خیر اندیش، خیر خواہ۔ هَنَا و هَنَاءَة: سعادت، خوشی، مسرت، اچھی صحت، خیر و عافیت، مبارکباد، مبارکبادی، بدھائی، تہنیت۔ هِناء: تارکول۔

هنب: ۱۔ هَنِبَ هَنَبَةً الرجُلُ: آدمی کا ڈھیلا ہونا، سست ہونا۔

۲۔ الهَنْبَة جمع هَنابِث: مشکل کام، بات میں گڑبڑی۔ الهَنابِث: مصیبتیں، ملی جلی خبریں یا معاملات۔

۳۔ الهَنْبَذَة جمع هَنابِذ: سخت کام۔

۴۔ الهِنْبِر (ح): نوجوان گدھا، بجو، بجو کا بچہ۔ الهِنْبِرَة: ھنبر کی مادہ، گدھی، بجو۔ الهِنْبُر: بجو، بیل، گھوڑا، ردی چیز یا اس کے اطراف۔ الهُنْبُور: ریت کا بلند ٹیلہ۔ الهَنابِير واحد هُنْبُورَة: ریت کے بلند ٹیلے۔

۵۔ هَنْبَسَ و تَهَنْبَسَ: خبروں کی تلاش میں ہونا۔

۶۔ هَنْبَغَ الرجُلُ: بھوکا ہونا۔ — العجاجُ: غبار کا بہت ہونا، اور اڑنا۔ الهُنْبُغ: خفیف سی حرکت سے اڑنے والی مٹی۔ (ح): شیر، بے وقوف بدکار عورت، شدت کی بھوک۔ کہا جاتا ہے: جوع هُنْبُغ و هِنباغ و هُنْبُوغ: سخت بھوک۔

۷۔ هَنْبَلَ الرجُلُ: لنگڑانا اور بجو کی چال چلنا۔

هنت: هَنَتَ في امرهِ: اپنے کام میں سستی کرنا۔

هنج: تَهَنَّجَ الفصيلُ: اونٹ کے بچہ کا ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا اور زندگی حاصل کرنا۔

هند: ۱۔ هَند الرجُلُ: اُلو کی طرح چلانا۔

۲۔ هَنَّدَ فلاناً: کو گندی گالی دینا۔ — زیدٌ: زید کا گالی برداشت کرنا اور گالی دینے والے کو گالی نہ دینا۔ — فی الامر: کام میں کوتاہی کرنا۔ کہا جاتا ہے: ماهَنَّدَ عن الامر: کام سے نہ رکنا، کام سے پیچھے نہ ہٹنا۔

۳۔ هَنَّدَ السیفَ: تلوار تیز کرنا۔ الهِند: ایک ملک کا نام، ہند، ہندوستان، بھارت۔ هِنْدی: ہندوستان کا، ہندوستانی جمع هُنُود: امریکہ کے اصل باشندوں کو بھی هُنُود کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: لَقِيَ هِندَ الأحامِسِ: وہ مر گیا۔ الهِنْدُوانِي و الهُنْدُوانِي: ہندوستان سے منسوب، ہندوستانی۔ کہا جاتا ہے: سیفٌ هِنْدُوانی: ہندوستانی تلوار، یہ نسبت خلاف قاعدہ یا غیر معمولی ہے۔ الأهانِد: ہندوستان کے لوگ۔ المُهَنَّد: ہندوستانی لوہے کی تلوار۔

۴۔ هَنَّدَتْهُ المرأةُ: عورت کا کسی کو ناز و نخرے سے اپنا عاشق بنانا۔ کہا جاتا ہے: هَنَّدَتْ بقلبه: اس نے اس کے دل کو لبھا لیا۔ هِندٌ جمع هُنُود و هِندات: ایک عورت کا نام پھر عورتوں کے لئے علم جنس کے طور پر استعمال ہونے لگا جیسے مردوں میں سے زید اور عمرو وغیرہ۔

۵۔ هِندٌ و هُنَيْدَة جمع أهْنُد و أهْناد و هُنُود: سو یا سو سے زیادہ اونٹ۔

۶۔ الهِنْدَب (ن) و الهِنْدَباء و الهِنْدِباء کاسنی۔ الهِنْدِباء البَرِّيَّة: جنگلی کاسنی۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ الهِنْدَباة و الهِنْدِباة: هندباء کا واحد۔

۷۔ الهِنْداز: حد و قیاس۔ کہا جاتا ہے: اعطاهُ بلا هِنداز ولا حساب: اس نے اسے بلا اندازہ و حساب دیا۔ الهِنْدازة: درزی کا گز (جس سے کپڑے وغیرہ ناپے جاتے ہیں)۔ المُهَنْدِز: انجینئر۔ (فارسی لفظ) عربی میں اس کے لئے مُهَندِس کا لفظ عام ہے۔

۸۔ هَنْدَسَ هَنْدَسَةً مَجاري المِياه و الابنية و نحوها: پائپ لائنوں و عمارتوں وغیرہ کا اندازہ کرنا اور خاکہ کھینچنا۔ ان چیزوں کا منصوبہ بنانا، انہیں تعمیر کرنا، ان کی انجینئری کرنا۔ الهِنْدِس من الرجال: تجربہ کار، ماہر، دور اندیش۔ الهَنْدَسَة: انجینئری، انجینئرنگ (engineering)۔ هُنْدُوس الامر جمع هَنادِسة: کام کا جاننے والا۔ المُهَنْدِس: انجینئر (engineer) جومیٹری کا عالم۔

۹۔ الهَنادِك واحد هِندَکی: ہندوستان کے لوگ۔ کاف تحقیر کے لئے ہے (فارسی لفظ)۔

۱۰۔ هَنْدَمَ الشيءَ: چیز کو تناسب سے ترتیب دینا، مضبوط کرنا۔ — العُودَ و غيرهُ: لکڑی وغیرہ کو اندازے پر

درست کرنا۔ الهِنْدَام: قد کی خوبصورتی اور اعتدال۔ (فارسی)

⊙ الهند: ہندوستان، بھارت، ہندوستانی: مشرقی)۔ الهند البریطانیة: برطانوی ہندوستان (تقسیم برصغیر سے قبل)۔ الهند الصینیة: انڈوچائنا (Indochina)۔ الهند الشرقیة: مشرقی ہندوستان۔ جُزُر الهند الغربیة: ویسٹ انڈیز، کریبین آئی لینڈس (the west Indies, the Caribbean islands)۔ هندی: ہندوستانی، بھارتی (جمع هنود) ایک ہندوستانی، ایک بھارتی۔ المحیط الهندی: بحر ہند the Indian ocean)۔ الهنود الحُمر: امریکی ہندوستانی (American Indians)۔ مُهنَّد: ہندوستانی لوہے کی بنی ہوئی تلوار (sword made of Indian steal)۔ مُهنَّد و هندباء: جنگلی کاسنی۔ هِنْداز: پیمانہ۔ هَنْدَسة: انجینئری، انجینئرنگ، مکینکل انجینئرنگ۔ فنِ تعمیر و طرزِ تعمیر (architecture)، تعمیراتی انجینئرنگ (architectural engineering)۔ فوجی انجینئرنگ (army engineering)۔ جومیٹری (geometry)، مساحت (surveying)۔ علمُ الهندسة: جیومیٹری۔ هندسة الري: آبپاشی انجینئرنگ۔ الهندسة الزراعیة: فلاحت (agronomy)۔ الهندسة السَّطْحِیَة: مسطح جومیٹری، هندسة المُدُن: ٹاؤن پلاننگ (town planning)۔ الهندسة المِعْماریة: فنِ تعمیر۔ هندسة المَیدان: جنگی انجینئرنگ (combat engineering)۔ الهندسةُ الکَهْرَبائیة: الیکٹریکل انجینئرنگ، برقی حرفیات (electrs-technics)۔ هندسة اللاسلکی: ریڈیو انجینئرنگ۔ الهندسة المدنیة: سول انجینئرنگ (civil engineering)۔ الهندسة المیکانیکیة: ملینیکل انجینئرنگ۔ هَنْدَسِی: ٹیکنیکل، ٹیکنولوجیکل، جومیٹریکل، مکینیکل انجینئرنگ یا مکینیکل انجینئرنگ سے متعلق، صنعتی۔ فِرْقَة هندسیة: شعبۂ انجینئرنگ، کور آف انجینئرز (corps of engineers)۔ القُوّات الهندسیة: کور آف انجینئرز، انجینئر لوگ۔ مُهَنْدِس: معمار، ماہر تعمیرات انجینئر، فنی ماہر، مستری، کاریگر (technician)۔ مهندسٌ زِراعی: زرعی انجینئر۔ مهندسٌ عَسْکَرِیٌّ: فوجی انجینئر (army engineer)۔ مهندسٌ کَهْرَبائی: الیکٹریکل انجینئر۔ مهندسٌ مِعْمارِیٌّ: ماہر تعمیرات (architect)۔ هَنْدَمَ ہ: کو ترتیب سے رکھنا، کو سلیقے سے یا قرینے سے لگانا، کی سج دھج نکالنا، کو خوبصورت لباس پہنانا: خوش پوش بنانا، صاف ستھرا بنانا، کو تراش کر درست کرنا۔ ہ: کو سجانا، کا بناؤ سنگار کرنا۔ هَنْدَمَة: ہم آہنگی، حسن ترتیب، سلیقہ مندی، صفائی، ستھرائی، آراستگی، ٹیپ ٹاپ۔ مُهَنْدَم: اچھی ترتیب سے رکھا ہوا، سلیقے یا قرینے سے لگایا ہوا، خوب سج دھج والا، خوش پوش، باترتیب، باضابطہ، با قرینہ، صاف ستھرا، آراستہ کیا ہوا، بنا ٹھنا، چھیلا، بانکا، چھبیلا۔ خوش لباس (شخص) ناپ کے مطابق، درزی کا سلا ہوا (لباس)۔ هِنْدام: ہم آہنگی، حسن ترتیب، سلیقہ مندی، صفائی، ستھرائی، آراستگی، ٹپ ٹاپ، پوشاک، لباس۔ أَصْلَحَ هِنْدامَهُ: اپنا لباس قرینہ سے پہننا، کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، بال بنانا۔ هَنْشِیر جمع هَنَاشِیر: دیہاتی جائداد۔

هنع: هَنَعَ -هَنْعًا الشیءَ: چیز کو موڑنا، دہرا کرنا۔ — لفلان: کسی کا مطیع ہونا صفت: هانِع جمع هُنَّع۔ هَنِعَ -هَنَعًا: جھکی ہوئی گردن والا ہونا صفت: أَهْنَع۔ إِسْتَهْنَعَ الرجلُ: جواب نہ دے سکنا۔ الهَنَع: قد کا جھکاؤ، اونٹ کی گردن کا جھکاؤ۔ الهَنْعَة: هنع کا اسم مرۃ، اونٹ کی گردن کے نچلے حصہ داغ کا، چاند کی ایک منزل میں پانچ صف بستہ ستارے جو جوزاء کی بائیں جانب واقع ہیں۔ الهُناع (طب): ایک قسم کی بیماری جو انسان کی گردن میں پیدا ہوتی ہے۔ الأَهْنَع: جھکی ہوئی گردن یا جھکے ہوئے قد والا، زین پر دائیں بائیں جھکنے والا، زمین کی طرف گردن جھکانے والا اونٹ۔ الهَنْعاء: أَهْنَع کا مونث۔ نَعامَةٌ هَنْعاءُ: خمیدہ گردن والا شتر مرغ۔ اکمة هَنْعاءُ: چھوٹا ٹیلہ۔

⊙ هُنْغاری (صفت و اسم): ہنگری Hungarian

هنف: ۱۔ هَنَفَ فلانٌ صاحبَهُ: ساتھی کے ساتھ کھیلنا۔ هانَفَ مُهانَفَةً و هِنافًا۔ هانَفَت المرأةُ خاصَّةً: عورت کا تحقیر آمیز انداز میں ہنسنا۔ أَهْنَفَ: تحقیر آمیز ہنسی ہنسنا۔ —ت المرأةُ: عورت کا تحقیر آمیز انداز میں ہنسنا۔ تَهانَفَ: مخول سے ہنسنا۔ الهُنوف: مسکراہٹ سے اونچی ہنسی۔

۲۔ هَنَفَ و أَهْنَفَ الرجلُ: جلدی کرنا۔

۳۔ أَهْنَفَ و تَهانَفَ الصبیُّ: رونے کے لئے تیار ہونا۔ تَهانَفَ بہ...

۴۔ تَهانَفَ بِهِ: پر تعجب کرنا۔

⊙ هَنَّفَ: جلدی کرنا۔ هانَفَ و تَهانَفَ: حقارت آمیز انداز سے ہنسنا، حقارت سے مسکرانا، سسکیاں بھرنا، سسکیاں لینا، ریں ریں کرنا، بسورنا۔

هنق: الهَنَق: بے آرامی، بے قراری۔

هنم: الهَنَم: کھجور یا اس کی ایک قسم۔

⊙ هَنَم: خشک کھجوریں۔

هنو: الهَنو: وقت۔ الهَنُ (تخفیف نون یا شعروں میں بعض اوقات تشدید کے ساتھ: ہر اسم جنس سے کنایہ ہے اور معنی چیز ہے۔ کہا جاتا ہے: هذا هَنُكَ: یہ تمہاری چیز ہے۔ تصغیر: هُنَیّ۔ مؤنث هَنَة: اس کا لام کلمہ محذوف ہے۔ ایک لغت میں یہ لام کلمہ هاء ہے، جس کی تصغیر هنیهة ہے۔ جس کی تصغیر هُنَیْهَة ہے۔ کہتے ہیں: امکُثْ هُنَیْهَةً: تھوڑی دیر ٹھہرو۔ ایک لغت میں یہ واو اور تصغیر مونث میں هُنَیَّة اور جمع هَنَوات ہے۔ بعض اوقات اپنے اصل پر جمع آتی ہے چنانچہ آپ کہتے ہیں هَنات۔ حالت رفعی میں هَنوها، نصبی میں هناها اور جری میں هَنیها۔ الهَن کا تثنیہ هَنانِ و هَنَوان جمع هَنُونَ۔ سے کہا جاتا ہے: فی فلان هَناتٌ: فلاں شخص میں بری خصلتیں ہیں۔ ایسا اچھی باتوں میں نہیں کہا جاتا ہے۔ الهَنا: خسیس اور کمینہ نسب۔ هَنا: آنا کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ آپ کہتے ہیں: هَنا فعلتُ: میں نے کیا۔ هُنا قریب جگہ کے لئے اسم اشارہ بمعنی یہاں اس ہا تنبیہ کا اضافہ کر کے کہتے ہیں: هٰهُنا اور کاف خطاب کا اضافہ کر کے کہتے ہیں: هُناك: خطاب کے 'ک' کے ساتھ دوری کے لام کا اضافہ کر کے کہتے ہیں۔ هُنالِكَ: وہاں۔ هُنا (معرفہ کے طور پر): کھیل کود۔ حدیث الرکب یومَ هُنا: کھیل کود کے دن لوگوں کی بات چیت۔ الهَناة جمع هَنَوات: مصیبت۔ کہا جاتا ہے: جاءَ مِن هَنی: وہ یہاں سے آیا۔ (من هنا)

⊙ هَنَة جمع هنات و هنوات: چیز، غیر اہم چیز وغیرہ، حقیر رقم، بے حقیقت شئے، دھبا، داغ، بدنامی، عیب نقص، درز۔

هـ: هَهْ (تذکرہ اور وعید کے لئے اسم صوت) اف، ارے، ہائے، توبہ، حیف افسوس۔

هة: هَهَّ -هَهًّا و هَهَّةً: تتلانا، زبان رکنا۔

⊙ هَنْهَنَ لِ: (بچہ) کو لوری دے کر سلانا۔ هَنْهُونَة: لوری۔

هو: هُوَ مفرد مذکر غائب کی ضمیر: وہ۔ تثنیہ: هُما جمع مذکر هُم۔ مفرد مونث هِیَ: مونث تثنیہ: هُما۔ جمع

مؤنث هُنَّ: واؤاور فاء کے بعد هُوَ اور هِیَ کی ھا کو ساکن کرنا جائز ہے۔ اس صورت میں کہا جائے گا: وَهْو و فَهْوَ وَهْیَ اور فَهْیَ۔ اس طرح لام کے بعد جیسے إنَّ هذا لَهْوَ الحق: یہ استعمال قلیل ہے۔ کبھی شعروں میں ہمزۂ استفہام کے بعد ھاء ساکن ہوتی ہے۔الهُوِيَّة: کسی چیز یا شخص کی حقیقت جوہر، روح، اصل، ماہیت، خواص، قسم، نوعیت، ہم اصلی، ہم مادی، ہم ذاتی، ہم جنسی، شخصیۃ، مطابقت، یکسانیت۔ الهُوهُو. هُوَهُوَ سے مرکب لفظ جسے اسم معرف بنا لیا گیا ہے۔اس کا معنی اتحاد بالذات ہے۔

ⓒ هُو وہ، یہ، خدا۔هُوِيَة و بطاقة الهوية و تذكرة الهوية: شناختی کارڈ۔اوراق الهوية: شناخت کی دستاویزات، کاغذات نمائندگی، سرکاری تصدیق، تصدیق نامہ، مراسلہ تعارف۔عُرِفَ هُوِيَتُهُ: وہ شناخت کیا گیا، وہ پہچان لیا گیا، اس کی نشاندہی کر دی گئی۔

هوا: هَاءَ يَهُوءُ هَوْءً بنفسه إلى المعالي: اپنے آپ کو بلند کرنا۔ ہُ بخيرٍ او شرٍّ وَهَاءَ به خيراً او شراً: کو اچھا یا برا گمان کرنا یا اسکو بھلائی یا برائی سے متہم کرنا۔ــ بفلانٍ: سے خوش ہونا۔هَاءَ هَيْئَةً حَسَنَةً: وہ اچھی صورت وشکل پر ہوگیا۔هَوِئَ يَهْوَأُ هَوْأً اليه: کا ارادہ کرنا۔هَاءِ یا رجُلُ: (ہمزہ کی زیر کے ساتھ بمعنی لاؤ۔ ھات کی طرح اس کی بھی گردان ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے هَاءِ هَائِيَا هَاءُ وا هَائِي هَائِيَا هَائِينَ: اسجگہ ہمزہ ھات میں ت کی جگہ آتی ہے۔ جب کہتے ہیں هَاءَ يا رجُلُ: (ہمزہ کی فتح سے تو اس کا معنی ہوتا ہے (لے) لو (خُذ)۔ مذکر کے لئے آپ کہتے ہیں هاءَ هَاؤُمَا هَاؤُمْ اور مونث کے لئے کہتے ہیں هَاءِ (یاء کے بغیر ہمزہ کی زیر کے ساتھ) هَاؤُمَا هَاؤُنَّ: نیز آپ کہتے ہیں هَاكَ هَاكُما هاكُم هَاكِ هَاكُما هَاكُنَّ: اس جگہ ک ھاء کی جگہ ہے۔الهَوْء (مص): ہمت، پرزور رائے۔ کہا جاتا ہے وقع كذا في هَوْئِي يا هُوئِي: میرے گمان میں ایسا آیا۔

هوب: الهَوْب: دوری، بکواس کرنے والا بیوقوف، آگ کی بھڑک۔

۲ الهَوْبَر (ن): سوسن یا سرخ سوسن (ح): چیتا (ح): بہت بالوں والا بندر۔ناقة مُهَوْبِرَة: بہت گوشت والی اونٹنی۔اذنٌ مُهَوْبِرَةٌ۔ مُهَوْبِرَة: کان جس پر پشم یا بال ہوں۔

هوت: هَوَّتَ تَهْوِيتًا فلانٌ: پست زمین میں آنا۔ــ به: کو پکارنا۔الهُوتَة و الهَوْتَة: پست زمین، پانی کی طرف اترنے والا راستہ، جمع هُوَت۔

ⓒ هَوْتَة و هُوتَة جمع هُوَت: پست زمین، زمین میں خوفناک گہرا شگاف، تحت الثری، پاتال، اتھاہ گہرائی، قعر۔

هوث: الهَوْثَة: پیاس۔

هوج: اهَوِجَ يَهْوَجُ هَوَجًا: لمبا بیوقوف اور جلد باز ہونا۔صفت اَهْوَج مونث هَوْجَاء۔ أَهْوَجَ هُ: کو لمبا بیوقوف اور جلد باز پانا۔تَهَوَّجَ الحرُّ: گرمی کا شدید ہونا۔الأَهْوَج: جنگوں میں بے دھڑک کود پڑنے والا بہادر۔کہا جاتا ہے هو أَهْوَجُ الطُّولِ: وہ بہت لمبا ہے۔الهَوْجَاءُ جمع هُوج: تیز رفتار اونٹنی۔(جمل اھوج نہیں کہا جاتا)ــ من الرياح: تیز رفتار آندھی جو گھروں کو اکھاڑ دے۔کہا جاتا ہے: لعبت بها هُوجُ الرياح: تیز و تند آندھی نے اس سے کلول کیا۔ضربة هَوْجَاءُ: پیٹ تک اثر کرنے والی ضرب۔

۲ هَوْجَلَ الرجُلُ: ہلکی نیند سونا، بے راہ ریگستان میں چلنا۔الهَوْجَل: بے راستہ دور تک پھیلا ہوا ریگستان، وہ راستہ جس میں میلوں وغیرہ کے نشان نہ ہوں۔ ایسی زمین جس میں کچھ پتہ نہ چلے، بہت ست، بے وقوف، بدکار عورت، لمبی رات، اونگھ کا بقیہ، کشتی کا لنگر، ماہر رہبر، ست رفتار۔کہا جاتا ہے مَشْيٌ هَوْجَلٌ: ست چال۔

ⓒ هَـوَج: حماقت، نادانی، خالی دماغی، بے عقلی، جلد بازی، بے فکری، بے پروائی۔أَهْوَج مونث هَوْجَاء جمع هُوج: بے فکر، بے احتیاط، عاقبت نا اندیش، لا پرواہ، بے صبر، جلد باز، بے دھڑک، بے پروا، بے لحاظ، بے مروت، سرنگوں، سر کے بل، سخت عجلت میں، بیوقوف، جیالا، تیز شدید، سخت، پرجوش، بدحواس۔ هَوْجَاء جمع هُوج: طوفان باد و باران، سخت آندھی، زور کی آندھی، طوفانی بگولہ، طوفانی گردباد۔

هود: اهَادَ يَهُودُ هَوْدًا: توبہ کرکے حق کی طرف رجوع کرنا۔کہا جاتا ہے هاد المُذنب إلى الله: گنہگار نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔صفت: هَائِد جمع هُود۔ ــ فلانٌ: یہودی ہو جانا۔ تَهْوَادًا: کمزور، نرم آواز سے بولنا۔ــ فی المنطق: نرمی و آہستگی سے بولنا۔هَوَّدَ تَهْوِيدًا: گلے میں آواز نرمی سے پھرانا، گانا، آہستہ آہستہ چلنا۔ــ فلانًا: کو خوشی میں ڈالنا، لہو و لعب میں مشغول کرنا، یہودی بنانا۔ــ الشرابُ فُلانًا: کو شراب کا مست کرنا۔ــ فلانٌ في المنطق: نرمی و آہستگی سے بولنا۔ــ في السير: چلنے میں دیر کرنا۔هَاوَدَ مُهَاوَدَةً هُ: کو مائل کرنا، واپس کرنا، سے صلح کرنا۔ــ هُ في البيع (ت): سے قیمت میں نرمی کرنا۔تَهَوَّدَ تَهَوُّدًا: توبہ کرکے حق کی طرف رجوع کرنا، یہودی ہو جانا۔ــ في المنطق: نرمی و آہستگی سے بولنا۔الهُود: یہود (یہودی کی جمع)، ھائد کی جمع (توبہ کر کے حق کی طرف رجوع کرنے والے)۔الهَوَادَة: وہ چیز جس سے قوم میں بھلائی کی امید کی جا سکے، نرمی، باہمی محبت و الفت، تخفیف و سہولت۔کہا جاتا ہے لأَبْعَثَنَّكَ إلى رجلٍ لا تاخذه فِيكَ هوادةٌ: میں تجھے ایک ایسے آدمی کے پاس بھیجوں گا جو تجھ سے دوستی کا اظہار نہیں کریگا۔يَهُودُ: لوگوں کی ایک نسل (علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے) اس پر ال داخل ہونے پر کہا جاتا ہے اليهود: یہ ھادوا سے مشتق ہے جس کا معنی ہے وہ تائب ہوئے۔اليهودي، اليهود کا واحد۔اليَهُودِيَّة: اليهودي کا مونث: یہودی عورت۔ التَهْوَاد: نرمی، دوستانہ سلوک، کمزور اور نرم آواز۔ التهويد: ریت میں ہوا کی سائیں سائیں کی آواز۔ کمزور نرم آواز۔المُهَاوَدَة (مص): مراجعت (ت) قیمت میں نرمی۔المُهَوِّد (فا): گویا، کھیل کود اور طرب میں ڈالنے والا۔

۲ هَوَّدَ تَهْوِيدًا: کوہان کا گوشت کھانا۔الهَوْدَة و الهُودَة جمع هَوَد: کوہان۔

۳ هُود: ایک برگزیدہ نبی کا نام۔قومُ هود: قوم عاد۔

۴ الهَوْدَج جمع هَوَادِج: کجاوہ، ہودہ۔

۵ الهَوْدَع واحد هَوْدَعَة (ح): شتر مرغ۔

۶ الهَوْدَك مونث هَوْدَكَة: موٹا۔

ⓒ هَادَ هَوْدًا: یہودی ہونا۔هَوَّدَ: آہستہ چلنا۔ــ هُ: (شراب کا) کسی کو مست کرنا، مخمور کرنا، مدہوش کرنا، کو یہودی بنانا۔هَاوَدَ: پرمہربان ہونا، شفیق ہونا، سے درگزر کرنا، سے مصالحت کرنا، سے بامروت و خلیق ہونا، کا خیال رکھنا، سے اچھا سلوک کرنا، سے اجتناب کرنا، سے کنارا کرنا، کے راستہ سے دور رہنا۔تَهَوَّدَ: یہودی ہو جانا۔الهُود: یہودی (لوگ) یہودی ٹولہ، قوم یہود۔هَوَادَة: تحمل، برداشت، صبر، دلجوئی، شفقت، مروت، پاس لحاظ، فروتنی، اخلاق، خلق، انسانیت، حسن اخلاق، خوش اخلاقی، بامروتی، نرمی، شریف دلی، (قوانین میں) ڈھیل، تخفیف، کمی۔مُهَاوَدَة: نرمی، مروت، حسن اخلاق، خوش اخلاقی، ناز برداری، دلجوئی، پاس، لحاظ۔مهاوَدةُ الأسعار: قیمت کم مقرر کرنا۔مُتَهَوِّد:

یہودیت کے رنگ میں رنگا ہوا، یہودی اثر یا غلبہ کے تحت مُتَہاوِد: معتدل (قیمت)

ھوذ: هُوَذا: مبتداء (ھو) اور اس کی خبر ذا سے مرکب لفظ۔ دیکھو! یہاں ہے۔ کبھی ھاء تنبیہ کا اضافہ کر کے کہتے ہیں ھَاھُوَذا۔ الھَاذَۃ جمع ھَاذ (ن): درخت۔ الھَوْذَۃ جمع ھَوْذ (ح): بھٹ تیتر۔ الیَھُوْدِی: یہودی۔

ھور: ۱۔ھَارَ یَھُوْرُ ھَوْراً فلاناً بالامر: پر کی تہمت لگانا۔ ۔۔ ہٗ بکذا: کو کا گمان کرنا، کو کا خیال کرنا۔ ۔۔ الشیءَ: کا تخمینہ لگانا، کا قیاس کرنا۔ فلاناً: کو دھوکا دینا۔ الھَوْرَۃ: تہمت، گمان۔ (ھَارَہٗ کا اسم ہے)

۲ھَارَ یَھُوْرُ ھَوْراً ہٗ عن الشیء: کو سے پھیر دینا۔ ہٗ علی الشیء: کو پر اکسانا۔

۳ھَارَ یَھُوْرُ ھَوْراً القومَ: قوم کو قتل کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے پر الٹانا۔ ۔۔ فلاناً: کو پچھاڑنا۔ ۔۔ البناءَ: عمارت کو منہدم کرنا۔ ۔۔ البناءُ: عمارت کا منہدم ہونا، ڈھینا۔ ۔۔ ھَوْراً و ھُؤُوراً البناءُ: عمارت کا پھٹ جانا۔ صفت ھَائِر۔ اور ھارٍ بھی کہتے ہیں۔ جیسے شائک السلاح وشاکی السلاح میں: (یعنی لفظ کو الٹ کر) ھَوَّرَ تَھْوِیْراً ہٗ: کو پچھاڑنا، کو ہلاکت میں ڈالنا تَھَوَّرَ تَھَوُّراً و تَہَیَّرَ تَھَیُّراً البناءُ: عمارت کا منہدم ہونا، گر پڑنا۔ ۔۔ الرجُلُ: لاپرواہی سے کام میں لگنا۔ الوَعْکُ الناسَ: لوگوں میں بخار کا پھیل جانا۔ ۔۔ اللیلُ: رات کا گزر جانا یا اس کا اکثر حصہ گزر جانا اور تاریکی نہ رہنا۔ ۔۔ الشتاءُ: موسم سرما کا بیشتر حصہ گزر جانا اور اس کی ٹھنڈک کا ماند پڑ جانا اِنْھَارَ اِنْھِیَاراً البناءُ: عمارت کا منہدم ہونا، گر جانا۔ ۔۔ الخرقُ: سوراخ کا پھٹنا گرنا اِھْتَوَرَ اِھْتِوَاراً الشئُ: ہلاک ہونا۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ ھارٍ و ھارٌ: زمانہ کی سختی سے کمزور اور گرا ہوا آدمی الھَوْر (مص) جمع اَھْوَار: چھوٹا سمندر، بکریوں کا ریوڑ خَرْقٌ ھَوْرٌ: چوڑا اور گہرا سوراخ الھَوْرۃ جمع ھَوْرَات: جائے ہلاکت۔ الھَوَارَۃ: ہلاکت الھَوَّارَۃ عند القدماء: فوج کی غیر منظم جماعت الھَیَّار: کمزور۔ الھَیِّر: بیباکی سے کاموں میں گھس پڑنے والا۔ التَیْھُوْر: گری ہوئی ریت، پست زمین۔

ھَارَ ھَوْراً و ھُؤُوراً: تباہ ہونا، گر پڑنا، گرنا، منہدم ہونا۔ ۔۔ ھَوْراً ہٗ: کو گرانا (خصوصاً عمارت کو)، ڈگمگا کر گرا دینا، گرانا، تباہ کرنا۔ ہٗ: کو پچھاڑنا، گرانا، زمین پر پھینک دینا ھَوَّرَ ہٗ: کو خطرہ میں ڈالنا، جوکھوں میں ڈالنا، نقصان پہنچانا تَھَوَّرَ: تباہ ہونا، گرنا، منہدم ہونا، خطرے میں کود پڑنا، لاپروا ہونا، غیر ذمہ دار ہونا، (وقت کا) گزر جانا اِنْھَارَ: گرنا، منہدم ہونا، (بحث کا سلسلہ) ٹوٹ جانا ھَوْر جمع اَھْوَار: جھیل۔ ھَوْرَۃ جمع ھَوْرَات: خطرہ، اندیشہ۔ ھَوَّارِی جمع ھَوَّارَۃ: رضاکار، قلیل مدت کا فوجی سپاہی، بے قاعدہ فوج الھوارۃ: بے قاعدہ فوجی دستے ھَیِّر: سخت عجلت میں، بے فکر، بے پروا، عاقبت نااندیش، کوتہ اندیش تَھَوُّر: بے عقلی، بے پروائی، غیر ذمہ داری، لا اُبالی پن، جلدی ابتری، سرعت، عجلت، جلد بازی، عاقبت نااندیشی اِنْھِیَار: گرنا، ٹوٹنا، دھماکے سے گرنا، تباہی، سقوط، زوال، بیٹھ جانا، رک جانا، ٹوٹ جانا مُتَھَوِّر: جلد باز، غیر محتاط، عاقبت نااندیش، جلد بازی کا، بے دھڑک، پھرتیلا، بڑا تیز، سخت عجلت کا، غیر اہم، بے فکر، غیر سنجیدہ، بے عقل، لاپروا، غیر ذمہ دار، غیر محتاط، بے وقوف جیالا، احمقانہ طور پر نڈر، درانہ، بے باکانہ ھَوْرْمُوْن: ہارمون (ایک مادہ جو غدددوں سے نکل کر خون میں شامل ہوتا ہے اور تحریک اعضاء کا باعث بنتا ہے۔ غدی ریزش (hormone)۔

ھوز: ھَوَّزَ تَھْوِیْزاً: مرجانا الھُوْز: مخلوق۔ آپ کہتے ہیں ما فی الھوز مثلُك: مخلوق میں تم جیسا نہیں۔ ما اَدری اَیُّ الھُوز ھو: میں نہیں جانتا وہ کونسی مخلوق ہے؟

۲ھَوَّز: حساب جمل کے حروف کا دوسرا مجموعہ الأَھْوَاز: بصرہ اور فارس کے درمیان کا علاقہ، جس میں نو قصبے ہیں۔ ہر قصبہ کا اپنا ایک مخصوص نام ہے۔ ان کی جمع الأھْوَاز ہے۔

۳الھَوْزَب (ح): گدھ، مضبوط و قوی اونٹ۔

۴الھَوْزَن: گرد و غبار۔

ھوس: ھَاسَ یَھُوْسُ ھَوْساً الشیءَ: کو کوٹنا، توڑنا۔ کہا جاتا ہے حمل علی العسکر فداسھم وھاسھم: اس نے لشکر پر حملہ کیا اور اہل لشکر کو روند ڈالا اور توڑ پھوڑ ڈالا۔ الطعامَ: بہت کھانا کھانا۔ الرجُلُ: زمین پر سختی سے ٹیک لگاتے ہوئے چلنا۔ باللیل: رات کو گھومنا، پھرنا۔ حولَ الشیء: چیز کے گرد گھومنا۔ ۔۔ الإبلَ: اونٹوں کو آہستہ ہانکنا۔ ۔۔ الذِئبُ فی الغنم: بھیڑیے کا بکریوں میں تباہی مچانا ھَوِسَ یَھْوَسُ ھَوَساً القومُ: قوم کا حیرت و اضطراب اور فساد میں پڑنا۔ فلانٌ: ہوس والا ہونا ھَوَّسَ ہٗ: کو کوٹنا، کو ہوس دلانا تَھَوَّسَ: نرم زمین میں سخت یا بھاری قدموں سے چلنا۔ ہوس والا ہونا الھَوَس (مص): جنون، پاگل پن۔ کہا جاتا ہے بہٖ اَسْہ ھَوَس: اس کے سر میں چکر ہے الھَوَّاس و الھَوَّاسۃ: رات کو گھومنے پھرنے والا شیر، تجربہ کار بہادر رَجُلٌ ھَوَّاس: بہت کھانے والا، پیٹو الأَھْوَس مونث ھَوْسَی: ہوس والا، بہت کھانے والا، بسیار خور۔ کہا جاتا ہے: الناسُ ھَوْسَی والزمان اَھْوَس: لوگ زمانہ کی پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں اور زمانہ ان کو مار کر کھا جاتا ہے الھَوِس: فکر، دل میں چھپائی ہوئی بات۔ ۔۔ عند الفلاحین: گیہوں وغیرہ جو خوشوں میں بھون کر کھائی جاتی ہے المُھَوَّس (مفع): ہوس والا۔ رَجُلٌ مُھَوَّسٌ: اپنے آپ سے باتیں کرنے والا۔

ھَوِسَ ھَوَساً: چکرا جانا، حیران و پریشان ہونا، گھبرا جانا، حواس باختہ ہونا، سخت بوکھلا جانا ھَوَّسَ ہٗ: کو چکرا دینا، حیران و پریشان کر دینا، گھبرا دینا، حواس باختہ کرنا، بوکھلا دینا، الجھاؤ میں ڈالنا، کو اندھا کر دینا، کو بہکانا، دھوکا دینا، الو بنانا، لٹو کرنا، فریفتہ کرنا، کی نظر کو خیرہ کرنا، پاگل کر دینا، کے حواس بگاڑنا، کو دیوانہ بنا دینا تَھَوَّسَ: دھوکا کھا جانا، الو بننا، لٹو ہونا، فریفتہ ہونا، کی نظر خیرہ ہونا، گھبرا جانا، کے حواس قائم نہ رہنا، کے پیچھے اندھا ہونا، خیالی پلاؤ پکانے والا ہونا، وہمی، خیال پرست یا خواب دیکھنے والا ہونا اِنْھَوَسَ: دھوکا کھا جانا، الو بننا، لٹو ہونا، (کی) نظر خیرہ ہونا ھَوَس: حماقت، بے وقوفی، ناسمجھی، نادانی، پاگل پن، دیوانگی، خبط، سودا، خیالی پلاؤ، خواب دیکھنا، وہمی ہونا، وجد، طوفانی تصور، ہذیان پاگل پن اضطراب، ہیجان، فریفتگی، شیفتگی، لٹوپن، وسوسہ، توہم، اندھا پن، کم عقلی ھَوِیس: خیال، فکر اَھْوَس: بے وقوف، پاگل سودائی، چندھیا ہوا، اندھا، بے عقل، فریفتہ، لٹو۔ مَھْوُوس: (مذہبی) خیال پرست مُھَوَّس: بیوقوف، پاگل، سودائی، چندھیا ہوا، اندھا، فریفتہ، لٹو۔ مُتَھَوِّس جمع مُتَھَوِّسون: خیال پرست، خیالی پلاؤ پکانے والا ھَوْسَۃ: شور و غل، غل غپاڑہ، چلانا، ہنگامہ، فساد۔

ھوش: ھَاشَ یَھُوْشُ ھَوْشاً القومُ: قوم کا مضطرب ہونا، قوم میں فتنہ و فساد واقع ہونا۔ ۔۔ اھلُ الحرب بعضُھم اِلی بعض: بعض کا بعض کی طرف اٹھنا۔ ۔۔ ت الخیلُ فی الغارۃ: حملہ میں گھوڑوں کا بدک کر تتر بتر ہونا۔ صفت ھَوَائِش ۔۔ المالَ: مال کو حرام طریقے سے جمع کرنا۔ الکلبُ: کتے کا بھونکنا (عام زبان میں) ھَوِشَ یَھْوَشُ ھَوَشاً: مضطرب ہونا۔ ۔۔ القومُ: مختلط و مضطرب ہونا ھَوَّشَ تَھْوِیْشاً الشیءَ: چیز کو خلط ملط کرنا، ادھر اُدھر سے جمع کرنا۔

ت الریحُ بالغبار: ہوا کا رنگ برنگ گرد و غبار لانا۔ ــــ القومَ: قوم میں فتنہ اور اختلاف ڈالنا۔ ــــ الکلبَ: کتے کو بھونکانا۔ هاوشهم مُهاوشةً: کو باہم ملانا۔ تهوّش تهوّشا القوم: لوگوں کا آپس میں گھل مل جانا۔ تهوّش على فلان: کے خلاف جمع ہونا۔ تهاوش تهاوشا القوم: لوگوں کا آپس میں گھل مل جانا۔ الهائش فا (هَوش کی تاکید کیلئے آتا ہے)۔ کہا جاتا ہے: جاء بالهوش الهائش: وہ بڑی تعداد لایا۔ الهَوش (مص): بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے: جاء بالهوش و الهُوش: وہ بڑی تعداد والی جماعت لایا۔ الهَوشة جمع هَوشات: دفعہ، گھلی ملی جماعت، مخلوط گروہ، فتنہ، اضطراب۔ کہا جاتا ہے: ایاکم وهوشات اللیل: رات کے حوادث سے بچو۔ اتقوا هوشات السوق: بازار کی گمراہی سے بچو اور اس بات سے بھی بچو کہ کوئی تم کو حیلہ سے ٹھگ لے۔ الهَواشات: جمع کردہ حرام و حلال مال، لوگوں کی جماعتیں، یا اونٹوں کے ریوڑ۔ الهُوَیشة: ملی جلی جماعت۔ التهاوش: مال حرام۔ المَهاوش: حرام راہ سے جمع کردہ مال۔

۲۔ هوِش يهوَش هَوَشا: دبلے پن سے چھوٹے پیٹ والا ہونا۔ الهَوَش: پیٹ کا خالی ہونا۔

○ هوّش۔ هوشا و هاش هَوشا: برانگیختہ ہونا، مشتعل ہونا، بے چینی و اضطراب کی حالت میں ہونا۔ هوّش ہ: کو برانگیختہ کرنا، مشتعل کرنا، میں ہیجان پیدا کرنا، ہلچل ڈالنا، اضطراب پیدا کرنا، کو مضطرب کرنا۔ ــ ہ: (انہوں کو) ابھارنا، برانگیختہ کرنا، اکسانا، جوش میں لانا، بھڑکانا، برافروختہ کرنا۔ ــ ہ علی: کتے کو کسی پر بھونکانا۔ ــ ہ علی: کو کے خلاف ابھارنا، اکسانا۔ ــ علی: پریشان کن اثر ڈالنا۔ هاوش ہ: کو (کتے کا) بھونک بھونک کر پریشان کرنا۔ تهوّش: مشتعل ہونا، برانگیختہ ہونا، ہنگامہ خیز ہونا، (تخیل وغیرہ کا) بے روک ہونا۔ هَوشة: جوش، اضطراب، ہنگامہ، ہلچل، گڑبڑ، افراتفری، بے چینی، شورش، بلوہ، دنگا فساد، شور و غوغا، شور، جھگڑا، فساد، ہلڑ ہلبلی۔ تهویش: اشتعال، برانگیختگی، ہلچل، اضطراب، پریشانی، تشویش، تحریک، ترغیب۔ مُهوّش: بھڑکانے والا، محرک، ہیجان پیدا کرنے والا، ابھارنے یا اکسانے والا، تکلیف دہ، مصیبت آور، شورشی، ہجوم کو مشتعل کرنے والا، بھڑکانے والا، اکسانے والا۔

هوع: ۱۔ هاعَ يهاعُ و يهوعُ هوعًا الرجلُ: قے کرنا۔ اسم۔ الهُوع و الهُواع و الهُیَعوعة: قے۔ هوّع تهويعًا الرجلَ ما اكلَهُ: آدمی کو قے کرانا، ڈرانے کے موقع پر کہتے ہیں: لأهوّعنّه ما اكلَهُ: میں اسکا کھایا پیا نکال لوں گا۔ تهوّع تهوّعًا: بہ تکلف قے کرنا، خون کی قے کرنا۔ کہا جاتا ہے: تهوّع القيءَ: اس نے بمشکل قے کی۔ تهوّع نفسَهُ: اس نے خود قے کی۔ الهُواع و الهُواعة: قے۔

۲۔ هاعَ يهاعُ هَوْعًا: گھبرانا۔ الهاع: حریص۔ رجلٌ هاعٌ و هائع: حریص آدمی (یہ هائع کا الٹ ہے)۔ الهَوْع (مص): بری اور شدید قسم کی حرص۔

۳۔ هاعَ يهاعُ هَوْعًا: سبک ہونا۔ ــ القومُ بعضُهم الی بعض: ایک دوسرے پر حملہ کا ارادہ کرنا۔ الهَوْع و الهُوع: دشمنی۔ المِهوَع و المِهواع: لڑائی میں چیخنے چلانے والا۔

○ هاع هَوْعًا: قے کرنا، ابکائی لینا، قے کرنے کی کوشش کرنا۔ هوّع ہ: کو قے کرانا۔ تهوّع: قے کرنا، ابکائی لینا، قے کرنے کی کوشش کرنا۔

هوف: الهُوف: گرم ہوا، ٹھنڈی ہوا۔ الهُوف: خیر اور بھلائی سے خالی آدمی۔ بیوقوف آدمی۔ نیز بمعنی هَوْف۔

هوك: هَوِكَ يهوَكُ هَوَكًا: بیوقوف ہونا۔ هوّكَ تهويكًا ہ: کو بیوقوف بنانا۔ هوّك تهويكًا: گڑھا کھودنا۔ تهوّكَ و انهاكَ انهياكًا: حیران و ششدر ہونا، بے احتیاطی سے مشکل میں پڑنا، بات میں مضطرب ہونا۔ الهَوِك و الهوك و الأهوك و الهُوك و الیهکوك: تھوڑی سی عقل رکھنے والا، بیوقوف۔ الهَوَك (مص): تھوڑی سی عقل کے ساتھ بیوقوفی۔ الهُوكة: گڑھا۔ الهوّك: متحیر۔ الهَوّاكة: هَوّاك کا مؤنث۔ ارضٌ هوّاكة و هوكة: شور زمین۔ الأهكاء: متحیر لوگ۔ المُتهوّك: متحیر، ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والا۔

○ هاك: دیکھو ها۔ هوكي: ہاکی (hockey)۔ هوكي الانزلاق: برفانی ہاکی۔

هول: ۱۔ هالَ يهولُ هَولاً الامرُ فلانًا: معاملہ کا کسی کو گھبراہٹ میں ڈالنا، معاملہ کا کسی کے لئے مشکل ہونا، تکلیف دہ ہونا۔ هِيلَ هَولاً السكرانُ: شرابی کا نشہ میں مختلف رنگ دیکھنا اور ڈر جانا۔ کہا جاتا ہے: هلتُ منه: میں اس سے خوفزدہ ہو گیا۔ هوّلَ تهويلاً ہ: کو خوفزدہ کرنا۔ ــ علی الرجلِ: آدمی پر حملہ کرنا۔ ــ الامرَ: کام کو برا بنا کر دکھانا۔ ــ عندی الامرَ: کام کو میرے نزدیک خوفناک بنانا۔ ــ القومُ علی الرجلِ بكذا: لوگوں کا آدمی کو کسی بات سے ڈرانا۔ تهوّلَ الرجلُ: آدمی کا خوفناک ہونا۔ ــ مالهُ: کے مال پر نظر بند لگانے کا ارادہ کرنا۔ اِهتالَ اِهتيالاً: خوفزدہ ہونا۔ آپ کہتے ہیں: هُلْتُهُ فاهتالَ: میں نے اسے خوفزدہ کیا تو وہ ڈر گیا۔ اِستهالَ يستهيلُ فلانٌ الامرَ: کسی کا معاملہ کو دہشت ناک پانا۔ الهائل: دہشت ناک۔ ــ من الامور: تکلیف دہ اور مشکل کام۔ تاکید کیلئے کہتے ہیں: هَولٌ هائلٌ: سخت خوف (جیسے کہتے ہیں: لیلٌ لائلٌ: لمبی تاریک رات)۔ الهَول (مص) جمع اهوال و هُؤول: خوف۔ الهُولة: خوف دلانے کی آگ، جو کسی کنوئیں میں سلگائی جاتی تھی اور اس پر نمک اور گندھک چھڑکتے تھے۔ جب وہ چٹختی تو اس شخص سے کہتے جس سے قسم لینی ہوتی کہ یہ آگ تجھے دھمکی دے رہی ہے تو وہ قسم کھانے سے اعراض کرتا۔ بچہ کو ڈرانے کی کوئی چیز۔ مجسمہ جو انگوروں کے باغوں میں گیدڑوں کو ڈرانے کے لئے رکھا جاتا تھا تاکہ وہ انگوروں پر چھلانگ لگانے اور انہیں کھانے سے باز رہیں۔ حیرت انگیز شئے یا بات۔ کہا جاتا ہے: وجههُ هُولةٌ من الهُوَل: اس کا چہرہ انوکھا ہے۔ ماهُوَ الاهُولةٌ من الهُوَل: وہ کریہ المنظر ہے۔ الهيلة: خوف۔ التهويل (مص): جس سے ڈرا جائے۔ المَهال و المَهيل: خوفناک جگہ۔ المَهول: خوفناک۔ المُهوّل (فا): قسم کھلانے والا، تاکید کیلئے کہا جاتا ہے: هَولٌ مُهوّلٌ: سخت خوف۔

۲۔ هوّلَ تهويلاتٍ المرأةُ: عورت کا لباس اور زیورات سے مزین ہونا۔ التهاويل: (تهويل کا واحد)، سرخ، زرد، سبز مختلف رنگ، تصاویر، نقوش اور زیورات کی زینت۔ تهاويلُ الربيعِ: موسم بہار کے رنگ برنگ پھول۔

۳۔ الهال: سراب۔ الهالة جمع هالات: چاند کا کنڈل۔

○ هالَ هَولاً ہ: کو ڈرانا، خائف کرنا، ہولا دینا، دہشت زدہ کرنا، خوف زدہ کرنا۔ هوّلَ ہ: کو ڈرانا، دہشت زدہ کرنا، گھبرا دینا، کے چھکے چھڑانا، خوف زدہ کرنا۔ ــ علی ب: کو کی دھمکی دینا، کے لئے کا خطرہ بننا، کو سے ڈرانا، خائف کرنا۔ ــ ب: چھڑی کو خطرناک انداز سے گھمانا۔ ــ ہ کسی چیز کی خوفناک طور پر تصویر کشی کرنا، کو خوفناک کر کے دکھانا۔ ــ ہ/من: میں مبالغہ کرنا، پر بہت زور دینا۔ ــ من: کے بارے میں بہت بکھیڑا کرنا، کو خواہ مخواہ بہت اہمیت دینا۔ اِستهال

۵: کو اہم سمجھنا، کو خوفناک خیال کرنا؛ پر دہشت زدہ ہونا، سے خوف زدہ ہونا، سے چکرا جانا۔ هَوْل جمع أَهْوَال هُؤُول: سخت خوف، دہشت، ہیبت، اندیشہ، کھٹکا، ہول، صدمہ، طاقت۔ ابو الهول: مصری مجسمہ جس کا جسم شیر کا اور چہرہ عورت کا ہے۔ يـا لَلْهَوْل: اوہ کتنا خوفناک۔ هَوْلَة: ڈرنے کی چیز، خوفناک چیز، سخت خوف۔ هـال: سراب، الاپچی۔ هَـالَة جمع هَالاَت: چاند یا سورج کے گرد ہالہ، ولی کا نورانی تاج، آنکھ کے گرد دائرہ ہالہ، تاج نور، نورانی، سنہری حلقہ، جلال، بزرگی۔ تهويل: ڈرانا، خوف زدہ کرنا، دہشت زدہ، گھبرا دینا، دہشت پیدا کرنا، دھمکی، تخویف، مرعوب کرنا، دھمکانا، ڈانٹنا، مبالغہ، ڈراؤنا خواب، کابوس، خیالی صورت، وہمی صورت، بھوت، سایہ۔ هـ... جمع تهويلات و تهاويل۔ تَهَاوِيل: سجاوٹیں، آرائشیں، زیورات، زیبائشیں، خوشگوار تصورات۔ هَـائِل: خوفناک، دہشتناک، ڈراؤنا، بھیانک، وحشتناک، وسیع، بہت بڑا، ضخیم، مہیب، ہولناک، حیرت انگیز، عظیم الشان، غیر معمولی، عظیم، افسانوی، حیران کن، عجیب خوفناک، سخت، شدید (جنگ، لڑائی)۔ مُهَـوِّل: ہولناک، خوفناک، دہشتناک۔ هَوْلَنْدَا یا هَـوْلَانْدَه: ہالینڈ (ایک ملک کا نام)۔ هَوْلَانْدِي: ہالینڈ کا، ہالینڈ کا باشندہ جمع هولانديون۔

هوم: ۱۔ هَـوَّمَ تَهْوِيمًا و تَهَـوَّمَ تَهَوُّمًا: اونگھنا، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی نیند لینا۔ الهَـامَة جمع هَـام و هَـامَاتٌ: ہر چیز کی چوٹی، سرا، دھڑ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ قوم کا سردار اور رئیس، لوگوں کی جماعت۔ (ح) گھوڑا۔ ایک چھوٹی قسم کا اُلو۔ جسے الصدی بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هـذا هامةُ اليوم او غدٍ: یہ آج مرے گا یا کل۔ اصبح فلانٌ هامةً: فلاں شخص مرگیا۔ بنـاتُ الهام: دماغ کا مغز۔ الهَـوْم: ہلکی نیند۔ الهَوَّام (ح): شیر۔ الأَهْوَم: بڑے سر والا۔

۲۔ الهَوْم: پست زمین۔ هوم المجوس (ن): چنبیلی کی مانند ایک پودہ جسے مجوس عبادت میں استعمال کرتے ہیں اور اس سے عجیب وغریب فوائد منسوب کرتے ہیں۔ الهُـوَام: بہت سخت پیاس۔ الهَـوْمَـلَة و الهَومَمَة: بیاباں، صحراء۔ الهِيَم: سیراب نہ ہونے والی ریت۔ قوم هِيمٌ: پیاسے لوگ۔

هـون: هَـانَ يَهُـونُ هَـوْنًا الامرُ على فلان: پر معاملہ/کام کا آسان ونرم ہونا۔ کہا جاتا ہے: هُـنْ عـنـدی اليوم: آج میرے پاس ٹھہرو اور آرام کرو۔ — هُونًا و هَوَانًا و مَهَانَةَ الرجلُ: ذلیل وحقیر ہونا، کمزور اور مسکین ہونا۔ اذا عَزَّ اخـوكَ فَهُنْ: جب تیرا بھائی معزز اور مغرور ہو جائے تو تو منکسر المزاج اور اپنے آپ کو ذلیل کرا اور جب وہ تجھ سے سختی سے پیش آئے تو نرم اور بردبار ہو جا۔ هَـوَّنَ تَهْوِينًا عليه الامرَ: پر معاملہ کو آسان اور ہلکا کرنا۔ کہا جاتا ہے: هَوِّن عليك: آرام سے، دھیرج سے، تحمل سے، برانگیختہ نہ ہو، مشتعل نہ ہو، جوش میں نہ آ۔ بالکل پرواہ نہ کرو۔ هَوَّنَ الشيءَ: کو ہیچ جاننا۔ هَـاوَنَ مُهَاوَنَةً نفسَهُ: اپنے آپ سے نرمی کرنا۔ أَهَانَ: إهَانَةً: کو حقیر وہیچ جاننا۔ تَهَاوَنَ تَهَاوُنًا و إسْتَهَانَ إسْتِهَانَةً بِهِ: کو حقیر جاننا، ہیچ سمجھنا، سے مسخری کرنا۔ إهْوَأَنَّ إهْوِئْنَانًا ت المفـازةُ: بیابان کا وسیع اور پست ہونا۔ الهَـاوَن و الهَـاوُون جمع هَوَاوِين: کونڈی، کھرل، ہاون، بالا انداز توپ۔ الهَـوْن (مص): سکون ووقار۔ کہا جاتا ہے: امْشِ على هَوْنِكَ: اپنی روش پر چلو۔ هـذا شـيءٌ هَوْنٌ: یہ چیز حقیر ہے۔ أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا ما: اپنے دوست سے معتدل دوستی کرو، اس میں ذرا سی افراط نہ ہو۔ (ما کا اضافہ ذرا سا یا ذرا سی کے معنی میں ہے)۔ الهُـوْن (مص): رسوائی، مخلوق۔ فَـأَخَـذَتْهُـمْ صَـاعِـقَةُ العذابِ الهُون: انہیں رسوا کن عذاب کی بجلی نے آ پکڑا۔ مـا أَدْرِي اىُّ الهُـونِ هُـوَ: میں نہیں جانتا وہ کس قسم کی مخلوق ہے۔ الهُونَة جمع هُوَن: تسکین، صلح۔ — والهَوْنَة: نرمی سے چلنے والی عورت۔ الهُوَيْنَا: نرمی آہستگی، یہ الهُونَى کی تصغیر ہے جب کہ الهُونَى اهـون کا مونث ہے۔ الهِيْنَة: نوع، قسم، سکون و وقار۔ کہا جاتا ہے: امْشِ علي هِينَتِكَ: نرمی سے چلو۔ الهَيِّن و الهَيْن جمع أَهْوِناء و هَيِّنُون و هَيْنُون مونث هَيِّنَة و هَيْنَة جمع هَيِّنَات و هَيْنَات: آسان، کمزور، ذلیل، آہستہ کار۔ الأَهْوَن: اسم تفضیل، آسان۔ کہا جاتا ہے: هو أَهْوَنُ عليه: وہ اس پر آسان ہے۔ المُهْوَئِن و المهوانّ جمع مُهْوَئِنَـات: دور جگہ یا پست زمین۔ المَـهَانَة: رسوائی۔ کہا جاتا ہے: رَجُل فيـه مَهَانَةٌ: ذلیل اور کمزور آدمی۔ المِهْوَان جمع مَهَاوِين: بہت نرم۔

هَانَ هَوْنًا على: کیلئے آسان ہونا یا ہو جانا، کیلئے کم اہمیت کا حامل ہونا۔ هَانَ عليه أن: اس حقیقت کو کوئی اہمیت نہ دینا، تھوڑی پروا کرنا کہ...... — هُونًا و هَوَانًا و مَهَانَةً: ذلیل یا قابل مذمت یا لائق مذمت ہونا یا ہو جانا۔ هَوَّنَ ه علـى: کو کیلئے آسان کرنا، کو کوئی چیز آسان یا غیر اہم کے طور پر پیش کرنا یا کسی سے کسی چیز کی آسان یا کم اہمیت کی حامل کے طور پر تصویر کشی کرنا۔ — ہ/من: کو گھٹا کر بتانا، کو بہت کم کر کے دکھانا، کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، کو حقیر سمجھنا، کا حقارت سے ذکر کرنا، کی توہین کرنا۔ أَهْوَنَ ہ/ہ: کو ذلیل سمجھنا حقیر جاننا، سے نفرت کرنا۔ — ہ: کو ذلیل کرنا، نیچا دکھانا، کو خفیف کرنا، کی خودداری کو صدمہ پہنچانا، کا غرور توڑنا، کو بے عزت کرنا، کو خوار کرنا، کی قدر گھٹانا، کو ذلیل سمجھنا، کو برا خیال کرنا، کو ناچیز سمجھنا، حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، توجہ کے لائق نہ سمجھنا، سے حقارت یا توہین آمیز سلوک کرنا، یا سے حقارت اور توہین آمیز انداز سے پیش آنا، کو نظر انداز کرنا، سے بے التفاتی سے کام لینا، کی توہین کرنا، کو برا کہنا، سے بدزبانی کرنا، کو گالی دینا۔ تَهَـاوَنَ ب: کو آسان سمجھنا، کے متعلق بری رائے رکھنا، کو حقیر جاننا، کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، کو کوئی اہمیت نہ دینا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا، سے نفرت کرنا۔ — ب/في: میں بے پرواہ ہونا، غافل ہونا، فرض ناشناس ہونا، ڈھیلا ہونا۔ لم يتهاون في: کچھ کرنے میں ناکام نہ رہنا، کچھ کرنے سے نہ تھکنا۔ استهـان و إسْتَهْوَنَ ب: کو آسان سمجھنا، کو حقیر جاننا، کو کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ کا اس سے بہت کم اندازہ لگانا جتنا وہ ہے، کو حقیر جاننا، کی صحیح قدر وقیمت کا اندازہ نہ کر سکنا، کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کو توجہ کے لائق نہ سمجھنا، کو حقارت سے دیکھنا؛ کو ٹھیک نہ سمجھنا، ٹھیک طرح نہ سمجھنا، کا غلط مطلب لینا۔ لايُسْتَهَانُ بِه: برا نہیں، اچھا ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، سے چشم پوشی ممکن نہیں۔ هَـوْن: آسانی، سہولت، فرصت، آرام، چین، سکھ۔ هَوْنًا: آہستہ، آہستگی سے، دھیمے سے، نرمی سے، آرام سے، اطمینان سے، غیر محسوس طور پر۔ على هَوْنٍ: آہستہ، دھیمے سے، نرمی سے، آرام سے، اطمینان سے، غیر محسوس طور پر۔ علـى هونِكَ: جب آپ چاہیں۔ هُـون: رسوائی، بے عزتی، فضیحت، ذلت، خواری، تذلیل۔ هَـوَان: کمینگی، سفلہ پن، فرومائیگی، ذلت، قابل مذمت یا لائق مذمت اور مقام یا درجہ غیر اہم ہونا، خفت، بے قدری، ہلکا پن، نظر انداز کئے جانے کے لائق ہونا، رسوائی، ذلت، تنزلی، خواری، ذلت، تذلیل، بے عزتی، فضیحت۔ هَيِّـن و هَيْـن جمع هَيِّنُون و هَيْنُون و أَهْوِنَاء: آسان، غیر اہم، غیر ضروری، حقیر ادنیٰ، چھوٹی سی، چھوٹا سا، نظر انداز کرنے کے لائق، بھلا دینے کے قابل، کم قیمت کا، ناقابلِ لحاظ، ناقابلِ غور، تھوڑا، خفیف، سادہ،

خالص، تکلف سے عاری، سیدھا سادھا، بے تصنع، باحیا، باعصمت، پاکدامن، معقول۔ هَيْن لَيْن: سادہ اور عمدہ۔ هُيْنَة: آسانی، سہولت، آرام، فرصت۔ هَوْيناً: نرمی، شائستگی، شرافت، حلم، بردباری، ملائمت، شفقت، نرم دلی، رحم دلی، مہربانی، سستی، سست رفتاری، آہستگی، دھیما پن، فرصت، راحت، آرام، چین، سکھ۔ الهوينا: آہستہ، نرمی سے آرام۔ اَهْوَن مونث هَوْناء: آسان، آرام دہ، زیادہ آسان، زیادہ چھوٹا، کم تر، زیادہ کم، کم قیمت کا، زیادہ نکما، ناقص یا بے کار۔ ما اَهْوَنَهُ: یہ کتنا چھوٹا ہے، کتنا نکما، ناقص یا بے کار ہے۔ اَهْوَنُ الشَّرَّين: کمتر برائی۔ مَهَانَة: سفلہ پن، خواری، ذلت، تحقیر، توہین، کمینہ پن، فرومائیگی، پاجی پن، رسوائی، بے قدری، خفت، تذلیل، اہانت، شرم کی بات، بے عزتی، بے وقری، بری بات، بے غیرتی، مورد عتاب ہونا، مرتبہ کا چھن جانا، شرمندگی، شرمساری، باعث ننگ و عار۔ اِهَانَة: ہتک، بے عزتی، تذلیل، اہانت، سبکی، ڈھنائی، بیہودگی، نامعقولیت، برا برتاؤ، بری ریت، برا رواج، برا دستور، غلط اور بیجا استعمال، گالی گلوچ، دشنام، سخت کلامی، بے حرمتی۔ تَهَاوُن: اہانت، حقارت، تحقیر، نفرت، بیزاری، استہزاء، فروگذاشت۔ تَهَاوُنٌ ب: سے بے اعتنائی، بے توجہی، کی بے قدری، میں عدم دلچسپی۔ اِسْتِهَانَة: اہانت، حقارت، تحقیر، توجہ کے لائق نہ سمجھنا، نفرت، بیزاری، استہزاء، فروگذاشت، ادائے فرض سے قاصر رہنا، توہین، عدول حکمی، خواری، ذلت۔ مُهِين: توہین کرنے والا، بے عزتی کرنے والا، ذلیل کرنے والا، منہ پھٹ، بدزبان، جذبات کو ٹھیس لگانے والا، دوسروں کو حقارت سے دیکھنے والا، ذلیل کرنے والا، ذلت آمیز، رسوائی کا موجب، رسواکن، فضیحت ناک، اخلاق سوز، انتہائی شرمناک۔ مُتَهَاوِن: بے پروا، غافل، فرض ناشناس، غیر جانبدار، ڈھیلا، ڈھیلا ڈھالا۔ مُسْتَهِين: توجہ کے لائق نہ سمجھنے والا، گھٹیا یا برا جاننے والا، حقیر سمجھنے والا، نفرت کرنے والا، حقارت سے دیکھنے والا۔

هوه: تَهَوَّهَ الرجُلُ: دردمند ہونا۔ الهَوْهَاءة: احمق۔ والهَوْها: ایسا کنواں جس میں اترنے والے کے لئے کوئی سہارا نہ ہو۔ رجُل هَوْهَاءة: کمزور دل آدمی، احمق آدمی۔ الهُوْهَة و الهَوَاهِيَة: بزدل۔ الهَوَاهِي: باطل اور لغو باتیں۔

هو: الهَوَ: جانب، کنارہ۔ الهُوَّة جمع هُوًى وهُوَّ وهُوِيّ: پست زمین، گہرا گڑھا، آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا۔ الهُوَّاءَة: پست زمین، گہرا گڑھا۔

هوی: هَوَى يَهْوِي هُوِيًّا ت العقابُ: عقاب کا اپنے شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ ــــ ت يدى لَهُ: ہاتھ کا کسی کی طرف پھیلنا اور بلند ہونا۔ ــ ت الريحُ: ہوا کا چلنا۔ ــــ ت الناقةُ براكبها: اونٹنی کا سوار کو لے کر تیز دوڑنا۔ ــ الرجُلُ: مرنا۔ ــ ت الطعنةُ: نیزے کے گھاؤ کا کشادہ ہونا۔ ــ في السير: گزرنا۔ ــ في الارض: زمین میں جانا۔ ــــ ت الاذنُ: کان کا سنسانا۔ هُوَّةَ الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ هَوِيًّا و هُوِيًّا و هَوَيَانًا الشيءُ: اونچائی سے نیچے گرنا، بلند ہونا چڑھنا۔ بعض کے نزدیک الهَوِي ارتفاع کیلئے اور الهُوِي انحدار کے لئے ہے۔ ــــ ت الاُمّ: ماں کا ہلاک ہونا یا لڑکے سے محروم ہونا، صفت هَاوِيَة۔ هَوِيَ يَهْوَى هَوًى هُ: سے محبت کرنا، کو چاہنا، صفت هَوٍ۔ هَاوَى مُهَاوَاةً و هِوَاءً فلانٌ: تیز چلنا۔ ــ هُ: کی مدارات کرنا۔ اَهْوَى إِهْوَاءً الشيءُ: گرنا۔ ــــ ت العقابُ: عقاب کا شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ ــــ الشيءَ: کو گرانا۔ ــ ت يدى له: ہاتھ کا کسی طرف پھیلنا اور بلند ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ أَهْوَى اليه بيده ليأخذَهُ: اس نے اس کو پکڑنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ بعض کے نزدیک باء زائد ہے۔ اور یہ درحقیقت أَهْوَى يدَهُ اليه ہے بمعنی اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا۔ نیز کہا جاتا ہے۔ أَهْوَيْتُ بالشيءِ: میں نے اسکا اشارہ کیا۔ اهويتُ له بالسيف فاطرتُ اربنةَ انفِهِ: میں نے تلوار کے اشارے سے اسکی ناک کی نوک اڑادی۔ تَهَاوَى القوم في المهواة: لوگوں کا گڑھے میں ایک دوسرے کے بعد گرنا۔ ــ الرجُلُ: تیز چلنا۔ اِنْهَوَى انهِواءً الشيءُ: چیز کا اوپر سے نیچے گرنا (جیسے هَوَى کا معنی ہے)۔ اِهْتَوَى اِهْتِوَاءً اليه بشيءٍ: سے کو اشارہ کرنا۔ اِسْتَهْوَى استهواءً هُ: کو حیران و مبہوت کرنا، کو اس کا عشق مزین کر کے دکھانا۔ کو مقناطیسی نیند سلا دینا۔ الهَاوِي (ح): ٹڈی۔ حرف الف کو بھی حاوی کہتے ہیں بمعنی ذو الهواء۔ الهَاوِيَة: فضا۔ بچہ گم کرنے والی عورت۔ هَاوِيَة: دوزخ (غیر منصرف ہے)۔ صفت کا لحاظ کر کے الف لام لگایا جاتا ہے یعنی الحارية کہا جاتا ہے۔ الهَوَاء جمع أَهْوِيَة: فضا، خالی چیز، ہر چیز جو نیچے سے پھٹی ہو، ہر سیال سونگھنے کی چیز، نسبت کے لئے: هَوَائي کہا جاتا ہے۔ بزدل (واحد جمع اس میں یکساں ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے هو هواءٌ: وہ بزدل ہے۔ هُم هَوَاءٌ: وہ بزدل ہیں۔ الهواء و اللواء: کبھی نرمی کبھی سختی برتنا۔ عَامَلَهُ بالهِواء و اللواء: اس نے اس کے ساتھ کبھی نرمی اور مہربانی سے اور کبھی سختی سے معاملہ کیا۔ الهَوَى (مص) جمع أَهْوَاء: عشق (خیر یا شر میں) دل کا ارادہ اور جھکاؤ ان چیزوں کی طرف جن سے کوئی خوش ہوتا ہو۔ (محمود یا مذموم) معشوق۔ (غیر محمود میں زیادہ مستعمل ہے)۔ کہا جاتا ہے فلان اِتَّبَعَ هَوَاه: فلاں شخص نے اپنے خواہش نفس کی اتباع کی (مذمت کے طور پر) فلانٌ من اهل الهَوَاء: فلاں شخص راہ حق سے ہٹا ہوا ہے یا بدعتی ہے۔ الهَوِي م هَوِيَة: مشتاق، شائق۔ الهَوِيّ: کان میں سنساہٹ، محبوب۔ کہا جاتا ہے: مضى هَوِيٌّ او هُوِيٌّ من الليل: رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ جلستُ عنده هَوِيًّا: میں اس کے پاس دیر تک بیٹھا۔ الهَوِيَّة جمع هَوَايا: گہرا کنواں۔ الأَهْوَى: هَوِي سے اسم تفضیل۔ هذا الشيء اهوى اِلَيّ من كذا: یہ چیز مجھے فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ الأُهْوِيَّة: فضا۔ گہرا گڑھا۔ الإِسْتِهْوَاء (مص): تلقین یا مقناطیسی عمل توجہ۔ مقناطیسی طور پر نیند لانے کا عمل، ہپناٹزم۔ کہا جاتا ہے: مضى تهواءٌ من الليل: رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ المَهْوَى والمَهْوَاة جمع مَهَاوٍ: فضا، دو پہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ۔

هَوَى ـ هُوِيًّا: گرنا، نیچے گرنا، نیچے آنا، بیٹھ جانا، لڑھکنا، گر پڑنا، ڈگمگانا، گر جانا، اوندھا ہو جانا، الٹ جانا، اوپر تلے ہونا، (شکاری پرندے کا) جھپٹ کر آنا، ٹوٹ پڑنا۔ ــ على: پر گرنا، پر جھپٹا مارنا، کو چنگل سے پکڑنا۔ ــ: ہوا کا چلنا۔ ــ ب: کو زیر و زبر کرنا، تہ و بالا کرنا، کا خاتمہ کرنا، کو ختم کرنا۔ هَوَى على رقبتها: وہ اس (عورت) کے بازوؤں میں گرا، اس نے اس کو گلے لگایا، وہ اس سے گلے ملا، اس نے اسے آغوش لیا، وہ اس سے ہم آغوش ہوا۔ هَوَى بمقامه: کو عہدے سے گرانا کا عہدہ گھٹانا، کو نگاہوں سے گرانا، ذلیل کرنا۔ هَوِيَ ـ هَوًى ه/ه: سے محبت کرنا، کا شائق ہونا، کو پسند کرنا۔ ــــ ه: کسی مشغلہ میں حصہ لینا، میں شریک ہونا، کو اختیار کرنا، کی طرف بطور مشغلہ توجہ کرنا۔ هَوَّى ه: (کمرے کو) ہوادار بنانا، کمرے میں تازہ ہوا آنے دینا، کو ہوا یا تازہ ہوا دکھانا۔ ــــ: ہوا کرنا۔ هَاوَى ه: اپنے آپ کو کسی سے با مروت دکھانا، کو خوش کرنا، کی بات ماننا، کی خوش آمد کرنا۔ اَهْوَى: گرنا۔ ــ ب: کو گرانا۔ ــــ على ب: پر سے جھپٹا مارنا، کو سے چنگل مار کر دبوچ لینا۔ ــ على: پر جھکنا۔ ــ الى: کے لئے ہاتھ بڑھانا، کو زبردستی چھیننا، کو پکڑنے کی کوشش

کرنا، کی طرف جانا، پر پلہ بولنا، کے لئے سخت کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، کی آرزو کرنا، کا متمنی ہونا، کی خواہش کرنا۔ أَهْوَى بيده إلى: کے لئے اپنا ہاتھ بڑھانا۔ تَهَوَّى: ہوادار ہونا۔ تَهَاوَى: گرنا، ٹوٹ جانا، ناکارہ ہونا، اپنے آپ کو گرانا، غوطہ مارنا۔ اِنْهَوَى: گرنا۔ اِسْتَهْوَى ہ: کو گرویدہ کرنا، بہکانا، ورغلانا، گمراہ کرنا، اُکسانا، رغبت دلانا، طمع دینا، للچانا، پھسلانا، لبھانا، لالچ دے کر پھانسنا، فریفتہ کرنا، کا دل موہ لینا، کو لبھانا، کو نہایت خوش کرنا، کو مسحور کرنا، کو اپنی نظر سے کام لے کر بے خود بنا دینا، پر خوشی سے وجد طاری کر دینا، کو خوش کرنا، محظوظ کرنا، کو آپے سے باہر کرنا، بے خود کرنا، وارفتہ کر دینا۔ هَوًى جمع أَهْوَاء و هَوَايا: محبت، چاہ، لگن، پیار، عشق، رجحان، میلان، پسند، رغبت، خواہش، آرزو، تمنا، طلب، چاہت، من کی موج، ترنگ، خوشی، مسرت، مرضی، پسندیدگی، رضا۔ عَلَى هَوَاه: کے لئے موزوں، آرام دہ۔ في الهوى: (سے) عشق۔ اصحابُ الأَهْوَاء: کسی فرقے کے پیرو، بدعتی لوگ۔ هُوَّة جمع هُوَات و هُوًى: بہت گہری گھائی یا کھڈ، رخنہ، درز، شگاف، غار، کھوہ، گڑھا، سوراخ، خندق، کھائی، خلیج (مجازا)۔ هواء جمع أَهْوِيَة و أَهْوَاء: ہوا، فضا، کرہ ہوا، چلتی ہوا، موسم، آب و ہوا۔ الهواءُ الأَصفر: پلیگ (بیماری)۔ هواء طَلْق: کھلی ہوا، تازہ ہوا۔ في الهواءِ الطَلْق: گھر سے باہر، میدان میں، تازہ ہوا میں۔ هواء مَضْغُوط: دبی ہوئی ہوا۔ سَلَكُ الهواء: ہوا بازی۔ طُلُمْبَةُ الهواء: ہوا بھرنے کا پمپ۔ هَوَائي: ہوائی، آسمانی، ہوادار، فضائی ہوا کا، باد آسا، ہوا جیسا لطیف، بہت اونچا، ہوا سے کام کرنے والا، اندرونی، قطر، موٹائی، چوڑائی، انٹینا، ایریل antenna, aerial۔ نیز (سِلْكٌ هوائيٌّ: انٹینا، ایریل) متلون مزاج، خبطی، موجی، عجیب، من موجیا، لہری، ہر آن بدلنے والا، نہایت لطیف، آسمانی، وہمی، خیالی، غیر حقیقی۔ دولاب هوائي: ہوائی پہیہ۔ هوائي إطاري: فریم دار انٹینا۔ هَوائي طَوْقي: پھندے دار انٹینا۔ هوائي مُرْسِل: پیغام رساں انٹینا۔ هوائي مُزْدَوَج: دو تاروں والا انٹینا۔ هوائي مُسْتَقْبِل: آواز گیر انٹینا۔ هوائي مُفْرَد: اکہرا یکتار والا انٹینا۔ هَوَّاء: شوقین، غیر پیشہ ور۔ هَوَايَة جمع هَوَايات: مشغلہ، ہابی، تفریحی مشغلہ، شوق کا کام، شائقیت، شوقینی، شوقیہ کھیل یا فن۔ هَوَّايَة: پنکھا، روشندان۔ أَهْوَى: زیادہ مرغوب، زیادہ پسندیدہ، زیادہ خواہش انگیز، پسندیدہ، بہتر۔ أُهْوِيَة: گہری گھائی یا کھڈ، بہت گہرائی، قعر، زمین میں گہرا خوفناک شگاف۔ مَهْوًى و مَهْوَاة جمع مَهَاوٍ: گہری کھائی یا کھڈ۔ قعر، زمین میں گہرا خوفناک شگاف، خلیج، مقام آرزو، بڑی خواہش کی جگہ، خواہش کی چیز، کرہ ہوا، فضا۔ مِهْوَاة: روشندان۔ تَهْوِيَة: ہوا دینا، ہوادار بنانا۔ اِسْتِهْوَاء: دلکشی، سحر، افسوں، دل فریبی، دلبری، دلربائی، پھسلاوا، بہکاوا، لالچ، ترغیب، تحریص، اشتعال۔ هَاوٍ: گرنے والا، بیٹھ جانے والا، محبت کرنے والا، عاشق، چاہنے والا، خیالی، لہری، شوقین، شائق، موجی، غیر پیشہ ور، اناڑی، دل بہلاوے کے لئے کام کرنے والا، فنون لطیفہ کا شائق۔ هَاوِيَة: رخنہ، درز شگاف، خلیج، گہری گھائی یا کھڈ، جہنمی گہرائی، دوزخ، جہنم، اتھاہ یا حد سے زیادہ گہرا گڑھا۔

هيى: هَاءَ يَهِيءُ هَيْأَةً و هَيَاءَةً: خوش شکل و ہیئت ہونا۔ يَهَاءُ هَيَاءَةً اليه: کا مشتاق ہونا — يَهَاءُ و يَهِيءُ هَيْأَةً للامر: کے لئے تیار ہونا۔ هَيِيءَ يَهَاءُ و يَهْيَأُ و هَيُؤَ يَهْيُؤُ هَيْأَةً و هَيَاءَةً: خوش شکل و ہیئت ہونا۔ هَيَّأَ تَهْيِئَةً و تَهْيِيئًا ہ: کو درست کرنا، تیار کرنا۔ هَايَأَ مُهَايَأَةً ہ في الأمر: کی کسی کام میں موافقت کرنا، کبھی تخفیف کے لئے ہمزہ کی جگہ یاء لائی جاتی اور کہا جاتا ہے: هَايَيْتُهُ مُهَايَاةً۔ هَايَأَهُ في دارِ كذا: یہ اس گھر میں عرصہ تک رہا اور وہ مدت تک رہا، بعض کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے حصہ کے مطابق نفع اٹھایا۔ فعلوا كذا بالمهايأة: انہوں نے متفقہ طور پر ایسا کیا۔ یہ فقہاء کی اصطلاح ہے۔ تَهَيَّأَ تَهَيُّؤًا للامر: کے لئے تیار ہونا، آمادہ ہونا، مستعد ہونا۔ — الشيءُ لفلانٍ: کے لئے کوئی چیز ممکن ہونا۔ تَهَايَأَ تَهَايُؤًا القومُ على الامر: پر آپس میں موافقت کرنا۔ تَهَايَأُوا على كذا: پر مجتمع ہونا۔ اللهَيْءُ و الهِيءُ: کھانے پینے کی دعوت۔ الهَيْئَة و الهِيئَة جمع هَيْئَات: چیز کی حالت، کیفیت، اور شکل و صورت۔ عِلْمُ الهَيْئَة: اجرام سماویہ سے بحث کرنے والا علم۔ الهَيِّئُ و الهِيِّيُ: خوبصورت ہیئت والا۔

هَاءَ — هَيُؤَ هَيْأَةً و هَيَاءَةً: خوبصورت ہونا، خوشنما ہونا، اچھی شکل کا ہونا، دیکھنے میں حسین ہونا، خوبصورت دکھائی دینا۔ — هِيئَةً إلى: کا خواہش مند ہونا، کی آرزو کرنا۔ هَيَّأَ ہ: کو تیار کرنا، کو لگانا، جڑنا، نصب کرنا۔ — لِ: کے لئے راہ ہموار کرنا۔ — ہ: کو ترتیب سے رکھنا۔ — لِ: کو کی طرف مائل کرنا، کے حق میں اثر ڈالنا۔ هَيَّأَ: فوجوں کو حرکت میں لانا، لڑائی کی حالت میں ہونا۔ هَيَّأَ الأسبابَ لِ: کے لئے راہ ہموار کرنا۔ هَيَّأَ ذاتَهُ لِ: کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ هَيَّأَ فرصةً ملائمةً لِ: کے لئے اچھا موقع پیش کرنا۔ هَايَأَهُ في: کے بارے میں کسی سے متفق ہونا، یا معاہدہ کرنا، سے میں اتفاق کرنا، متفق ہونا۔ — ہ: سے موافق یا مطابق ہونا، ہم آہنگ ہونا۔ تَهَيَّأَ لِ: کے لئے تیار ہونا، تیار رہنا۔ —: مسلح ہونا، لڑائی کے لئے تیار ہونا، لڑائی کی حالت میں ہونا۔ — ل: اپنے آپ کو کیلئے تیار کرنا، کے لئے تیار ہونا؛ کے لئے ممکن ہونا۔ — خوش لباس ہونا۔ تَهَيَّأَ: تیار! تَهَايَأَ: اپنے آپ کو ایک دوسرے کے مطابق بنانا، ہم آہنگ بنانا، باہمی تطبیق یا ہم آہنگی کرنا، متفق ہونا، اتفاق کرنا۔ هَيْئَة جمع هَيْئَات: شکل، صورت، ظاہری صورت، ظاہری حالت، ظہور، بھیس، وضع قطع، وضع، ہیئت، پہلو، حالت، کیفیت، ڈھنگ، طور، انداز، رنگ، چہرہ، بشرہ، قیافہ شناسی، علم قیافہ، خدوخال، خصوصی حالت، رویہ، موقف، صورت حال، حالت، گروہ، (اجتماعی) طبقہ، سوسائٹی، مجلس، انجمن، باہمی میل جول، جمعیت، کارپوریشن، اجتماعی ہیئت، تنظیم، بورڈ کمشن، شعبہ، ڈھانہ، عملہ (cadre)، کمیٹی، بنیادی تنظیم۔ هيئة الأمم المتحده و الهَيْئَةُ الأُمَمِيَة: مجلس اقوام متحدہ۔ الهيئة الاجتماعية: انسانی معاشرہ۔ هَيْئة الاذاعة اللاسِلكية: براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، نشری ادارہ۔ هيئة أَرْكانِ الحرب: جنرل سٹاف۔ هيئة اركان حرب الاسطول: بحری سٹاف۔ هيئة بَرْلَمَانِية: پارلیمنٹری گروپ۔ هيئة التحكيم: ثالثی بورڈ، جیوری (jury)، ججوں کی کمیٹی، فیصلہ دینے والوں کی کمیٹی (commitee of umpires)، ریفری، پنچ، حَکَم (جمع) بالخصوص فوجی نقل و حرکت میں)۔ هيئة التدريس: ٹیچنگ سٹاف (اساتذہ) (یونیورسٹی کا) شعبہ۔ پروفیسر صاحبان۔ هيئة حَاكِمة (او حكومية): حکومتی ایجنسی، اتھارٹی۔ هيئة دِبْلُوماسِية: ڈپلومیٹک کور۔ الهِيئة السعدية: سعدیونین (مصر کا ایک سابق سیاسی گروپ)۔ هيئة طبية: ایمبولنس کور۔ هيئة نيابية: نمائندہ جماعت، پارلیمنٹری جماعت۔ عِلْمُ الهيئة: فلکیات، ہیئت، علم ہیئت (astronomy)۔ هَيِّئ و هَيِّئ: خوبصورت حسین، جمیل، خوبرو، خوشنما، طرحدار، خوش شکل، دیدہ زیب۔ تَهْيِئَة: تیاری، ٹریننگ، مناسبت، موافقت، ہم آہنگی، ترتیب۔ تَهَيُّؤ: فوجی

تیاریاں۔ تَهَایُؤ: باہمی مناسبت یا موافقت، (باہمی) تصفیہ۔ مُهَایَاة: مشترکہ حق استعمال واستفادہ بلا ملکیت، نفع میں شرکت کا استعمال۔ مُهَیَّا: تیار، تیار شدہ۔

هیب: ا۔ هَابَ یَهَابُ هَیْبًا و هَیْبَةً و مَهَابَةً هُ: سے خوف کھانا، ڈرنا، بچنا، صفت هَائِب و هَیُوب و هَیُوبَہ و هَیَّاب و هَیِّب و هَیُوبَان و هَیْبَان و هَیَّابَة یعنی لوگوں سے ڈرنے والا۔ مَهُوب و مَهِیب و هَیُوب و هَیْبَان: جس سے لوگ ڈریں لغت میں هَابَه یَهِیبُهُ بھی کہا جاتا ہے۔ هَیَّبَ تَهْیِیبًا هُ الرجُلُ فلانًا: کی تعظیم وتوقیر کرنا۔ هَیَّبَ تَهْیِیبًا هُ الی فلان: کو کے لئے ہیبتناک بنانا۔ اَهَابَ اِهَابَةً الراعی بغنمه: چرواہے کا بکریوں کو ٹھہرانے یا لوٹانے کے لئے للکارنا۔ ـــ بالابل: هاب کہہ کر اونٹوں کو ڈانٹنا۔ ـــ بالخیل: هَبْ یا هَبِی کہہ کر گھوڑوں کو بلانا یا ڈانٹنا۔ ـــ بصاحبه: ساتھی کو بلانا۔ تَهَیَّبَ تَهَیُّبًا هُ: سے خوف کھانا، کو ڈرانا، گھبرا دینا۔ اِهْتَابَ اِهْتِیَابًا هُ: سے خوف کھانا، ڈرنا، بچنا۔ الهَاب (ح): سانپ۔ الهَیْبَة (مص): خوف، تعظیم۔ الهَیَّبَان: لوگوں سے ڈرنے والا، بزدل، چرواہا۔ الاَهْیَب: زیادہ رعب والا۔ مکانٌ مَهَابٌ و مَهُوب: خوف کی جگہ۔ کہا جاتا ہے هٰذا الشیء مَهِیبَةٌ لك: یہ چیز تمہارے لئے ڈر کا باعث ہے۔

۲۔ الهَیَّبَان: مٹی، اونٹوں کے مونہوں کی جھاگ، بہت تھوڑا۔

○ ساب ـ هَیْبَةً و مَهَابَةً ہ/ ہ: سے ڈرنا، دہشت کھانا، سے خائف ہونا، سے مرعوب ہونا۔ ـــ ہ: کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، کا عقیدت مند ہونا، کا بے حد احترام کرنا۔ هَیَّبَ ہ الی: کو کیلئے دہشت ناک بنانا۔ ـــ الی ہ: کے دل میں کا رعب یا احترام ڈالنا۔ ہ الی: کو کیلئے دہشت ناک یا پُر جلال نظر آنے والی بنانا۔ ـــ علی: کو دھمکی دینا، دھمکانا، ڈرانا، مرعوب کرنا، پر رعب ڈالنا، کی ہمت توڑنا، کی حوصلہ شکنی کرنا۔ اَهَابَ ب: کو بلانا، پکارنا، سے ملاقات کو جانا، سے اپیل کرنا۔ ـــ ب الی: کو کے پاس لیجانا، پر کے لئے زور دینا، کو پر ابھارنا، برانگیختہ کرنا، کی پر حوصلہ افزائی کرنا، کو پر اکسانا۔ تَهَیَّبَ بمعنی هاب۔ نیز تَهَیَّبَ ہُ: میں احترام کا جذبہ پیدا کرنا، کو خوفزدہ کرنا، دھمکانا، ڈرانا۔

اهتاب: بمعنی هاب۔ هیبة: خوف، ڈر، جلال، احترام، رعب، تعظیم، اجلال، لحاظ، پاس، عزت، ادب، رعب دار شکل، تقدس، متانت، عظمت، مرتبہ، مسلمہ حیثیت، وقار۔ هیّاب: بزدل، ڈرپوک، کترانے والا، جھجکنے والا، خود اعتمادی سے محروم، احترام کرنے والا۔ هَیُوب: بزدل، ڈرپوک، کترانے والا، احترام کرنے والا، دہشت ناک، خوفناک، ڈراؤنا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، رعب دار، پرجلال، بارعب، محترم، مقدس۔ مَهَاب: تعظیم واحترام کی چیز۔ مَهَابَة: عظمت، بلند مرتبہ۔ تَهَیُّب: خوف، ڈر، رعب۔ مَهُوب و مَهِیب: ڈرا ہوا، دہشت ناک، ناگوار۔ مُهِیب: رعب دار، پر جلال، بارعب، محترم، مقدس، سنجیدہ، باوقار، باوجاہت، وجیہ۔ مُتَهَیِّب: احترام کرنے والا، مؤدبانہ۔

هیت: ا۔ هَیَّتَ تَهْیِیتًا بفلان: کو پکارنا، بلانا۔ هَاتِ اسم فعل بمعنی "مجھے دے"۔ لا کہا جاتا ہے هَاتِ یا رجُلُ و هَاتِی یا امرأة و هَاتیا یا رجلان و یا امرأتان و هاتوا یا رجال و هاتین یا نساءُ: کہا جاتا ہے هَیْتَ و هِیتَ لَكَ: (تاء کی تثلیث کے ساتھ) بمعنی یہاں آ۔ آ۔ اس میں واحد، جمع مؤنث برابر ہیں لیکن عدد کو بعد کے الفاظ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے هیت لکما و هیت لکم و هیت لکُنّ: تم دو آؤ، تم بہت سے مرد آؤ، تم بہت سی عورتیں آؤ۔

۲۔ الهِیت: بہت گہری زمین۔

هیث: هَاثَ یَهِیثُ هَیْثًا و هَیَثَانًا لفلان: کو تھوڑا سا دینا۔ ـــ من المال: مال سے ضرورت کے مطابق حصہ پانا۔ هَایَثَ مُهَایَثَةً هُ: ایک دوسرے پر دولت مندی میں فخر کرنا، کثرت پر فخر کرنا۔ هَیَّثَ لَهُ شیئًا: کو کوئی چیز دینا۔ اِسْتَهَاثَ اِسْتِهَاثَةً ما أعطاهُ: کو دی ہوئی چیز کو زیادہ کرنا۔ المُهَایِث: بہت لینے والا۔

۲۔ هَاثَ یَهِیثُ هَیْثًا القومُ: جھگڑے کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ گتھ جانا۔ ـــ الشیءُ: حرکت کرنا۔ ـــ هَیْثًا و هَیَثَانًا فی الشیء: کو تباہ کرنا، خراب کرنا، اسی طرح بھیڑیے کا بکریوں میں تباہی مچانا۔ ـــ برجْلِهِ التراب: پاؤں سے مٹی اکھیڑنا۔ تَهَایَثَ القومُ: جھگڑے کے وقت ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جانا۔ اِسْتَهَاثَ اِسْتِهَاثَةً المالَ: مال خراب کرنا، تباہ کرنا۔ هَایِثَةُ القوم: لوگوں کا شور وغل۔ الهَیْث: حرکت۔ الهَیْثَة: لوگوں کی ایک جماعت۔

هیج: ا۔ هَاجَ یَهِیجُ هَیْجًا و هِیَاجًا و هَیَجَانًا الشیءُ: جوش وحرکت میں آنا، اٹھنا۔ ـــ البحرُ: سمندر کا پُر شور ہونا، طوفانی ہونا، چڑھنا، موج زن ہونا، موج خیز ہونا۔ ـــ الرجُلُ: حماقت سے مضطرب و متحرک ہونا، بہادر ہونا، کود پڑنا۔ ـــ الشیءَ و بالشیء: کو برانگیختہ کرنا۔ ـــ ت الابلُ: اونٹوں کا پیاسا ہونا۔ ـــ الابلَ: اونٹوں کو رات کے وقت گھاٹ یا چارے کی طرف چلانا۔ کہا جاتا ہے هَاجت السماءُ فَمُطِرنا: آسمان میں ابروباد ظاہر ہوا اور ہمارے اوپر بارش ہوئی۔ هَیَّجَ تَهْیِیجًا الشیءَ: کو برانگیختہ کرنا، اٹھانا۔ کہا جاتا ہے هَیَّجَ بینهما الشرَّ: اس نے ان دو شخصوں کے درمیان شر وفساد کو بھڑکایا۔ هَایَجَ مُهَایَجَةً و هِیَاجًا هُ: کو بھڑکانا، سے لڑائی کرنا۔ تَهَیَّجَ تَهَیُّجًا: برانگیختہ ہونا، بھڑکنا۔ تَهَایَجَ تَهَایُجًا القومُ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا، ایک دوسرے سے لڑنا۔ اِهْتَاجَ اِهْتِیَاجًا الشیءُ: برانگیختہ ہونا، بھڑکنا۔ الهائج/فا): جوش۔ غضب۔ کہا جاتا ہے هَاجَ هائِجُهُ: اس کا غصہ بھڑک اٹھا۔ هَدَأ هَائِجُهُ: اس کا جوش وغصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ الهَائِجَةُ: هائج کا مؤنث۔ الهَیْج (مص): جنگ، لڑائی، حرکت، تند ہوا۔ کہا جاتا ہے: یومُ هَیْجٍ: بادل، بارش یا ہوا کا دن۔ اول اول اٹھنے والے بادل کے لئے کہتے ہیں هَاجَ لَهُ هیجٌ حَسَنٌ: بادل خوب اٹھے۔ الهَیْجا و الهَیْجَاء: جنگ، لڑائی۔ شیءٌ هَیُوجٌ و مِهْیَاجٌ: برانگیختہ واٹھی ہوئی چیز۔

۲۔ هَاجَ یَهِیجُ هَیْجًا و هِیَاجًا و هَیَجَانًا النبتُ: گھاس کا سوکھ جانا۔ ـــ ت الارضُ: زمین کا سوکھی نباتات والی ہونا۔ اَهَاجَ اِهَاجَةً ت الرِیحُ النبتَ: ہوا کا نباتات کو خشک کرنا۔ اَهْیَجَ اِهْیَاجًا الأرضَ: زمین کو سوکھی نباتات والی پانا۔ أرضٌ هَائِجَةٌ: سوکھی یا زرد گھاس والی زمین۔ الهَیْج: زردی، پژمردگی۔

۳۔ الهَاجَة جمع هَاجَات (ح): مینڈکی۔

○ هَاجَ ـ هَیْجًا و هَیَجَانًا و هِیَاجًا: حرکت میں ہونا، ہلنا، جوش میں آنا، بھڑکنا، مضطرب ہونا یا ہو جانا، اٹھنا، (خواہش کا) کا جاگنا، اُگ پڑنا، بڑے جوش میں ہونا، پریشان ہونا۔ ـــ علی: کے بارے میں یا پر طیش میں آنا، برہم ہونا۔ ـــ: (سمندر کا) طوفانی ہونا، موج زن وموج خیز ہونا، تیز ہونا۔ هَاجَ و هَیَّجَ ہ: کو حرکت میں لانا، حرکت دینا، متحرک کرنا، ہلانا، مضطرب کرنا، جوش میں لانا، بھڑکانا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا، کو درہم برہم کرنا، میں خلل ڈالنا، پریشان کرنا، بے چین کرنا، کو غصہ دلانا، طیش میں لانا، اشتعال دلانا، اکسانا، روشن کرنا، جلانا، میں آگ لگانا، تحریک پیدا کرنا، ہیجان پیدا کرنا، (خون کو) ابالا دینا، (خواہش وغیرہ) بیدار کرنا، ابھارنا، کو واضح کرنا (عضو میں) سوزش پیدا

کرنا۔ ہ/ ہ علی: کو پر مجبور کرنا، کو کی ترغیب دینا۔ ـــــ ہ: (پرندے کو) اٹھانا، ڈرا کر اڑا دینا۔أهاج بمعنی هَیَّجَ۔ تَهَیَّجَ و اِهتَاجَ: حرکت میں ہونا، نچلا ہونا، اڑیل ہونا، بے قرار ہونا، بے کل ہونا، پریشان ہونا، جوش میں ہونا، بیدار ہونا، ہوشیار ہونا، خوف زدہ ہونا۔هَیج: اشتعال، برانگیختگی، جوش، ہیجان، ہلچل، اضطراب، پریشانی، شورش، گڑبڑ، کھلبلی، افراتفری، ہنگامہ، ان بن، نزاع، نااتفاقی، جھگڑا، لڑائی، جدل وجدال۔هُیجاء و هیجا: لڑائی، جھگڑا، نزاع۔هَیجَان: اشتعال، برانگیختگی، جوش، ہیجان، ہلچل، اضطراب، شورش، گڑبڑ، کھلبلی، افراتفری، ہنگامہ، بلوہ، دنگا، شور وغوغا، بے چینی، غصہ کی شدت، جوش وخروش، غضب طیش، جھلاہٹ، خفگی، نفرت خیز غصہ، تلخی، (عناصر کا) تندی دکھانا، بگڑنا اور ہنگامہ۔هائج: حرکت میں، بیدار، چلتا پھرتا، متحرک، بھڑکتا ہوا، مشتعل، بے قرار، بے کل، متلاطم، موج زن، موج خیز (سمندر) اونچی (لہریں)، ناراض، غضبناک، برہم، طیش میں، بھڑکا ہوا۔هَاجَ هائجُهٗ: خشم آلود ہوجانا، طیش میں آجانا۔مُهَیِّج: ہلتا ہوا، حرکت، جوش میں لانے والا، بھڑکانے والا، برانگیختہ کرنے والا، جگانے والا، ہیجان پیدا کرنے والا، پُرجوش خیال آفرین، اشتعال انگیز، آتشزن، آتش انداز، آگ لگانے والا، تحریک میں حصہ لینے والا، پریشان کن، بغاوت انگیز، فسادی۔ جمع مُهَیِّجات: چستی پیدا کرنے والا، نشاط انگیز، محرک۔مُهَیَّج مُتَهَیِّج و مُهتَاج: بھڑکا ہوا، مشتعل، پریشان، برانگیختہ، جوش میں لایا ہوا۔

هید: هَادَ یَهِید هَیداً و هَاداً هٗ: کوڈرانا، مصیبت زدہ کرنا، حرکت دینا، زائل کرنا، منہدم کرنا، روکنا، جھڑکنا۔ کہا جاتا ہے۔مایُهِیدُ نی ذلك: یہ نہ تو مجھ مجھے پریشان کرسکتا ہے نہ مجھے اس کی پرواہے۔هَیَّدَ تَهیِیداً هٗ: بمعنی هَادَهٗ۔ ـ الرجُلُ: جلدی چلنا، تیز چلنا۔ کہا جاتا ہے۔ماهَیَّدَ عن شتمی: وہ مجھے گالی دینے نہیں رکا۔ نہ جھٹلانے سے باز رہا۔الهَاد (مص): اونٹ کوڈانٹنے کا کلمہ۔ کہا جاتا ہے۔مالَهٗ هَادٌ: اس کو تو نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ منع کرنے والا۔الهَید (مص): مضطرب۔الهَیدان: بزدل، مضطرب، احمق بخیل۔

۲۔هَادَ یَهِیدُ هَیداً و هَاداً هٗ: کی اصلاح کرنا۔

۳۔الهیدرُوجین (ك): مادہ هدر میں دیکھئے (ہائیڈروجن)۔

هیر: هَیَّرهٗ فتَهَیَّرَ: بمعنی هَوَّرَه فتَهَوَّرَ: عام لوگ کہتے ہیں هَیَّرَ موادَّ الشیء: اس نے چیز کے مادوں کو کام کیلئے تیار کیا۔الهَیر: شمالی ہوا۔ ـــ من اللیل: رات کا نصف اوّل۔الهَیرَة: نرم زمین۔الهَیَار: کھنڈرات، کوڑا کرکٹ۔رجُلٌ هَیَّار: ضعیف آدمی۔الهَیِّر: شمالی ہوا۔ ـ من اللیل: رات کا نصف اوّل۔رجُلٌ هَیِّر: کاموں میں بے دھڑک گھس پڑنے والا آدمی۔

⊂ هَیَّر ہ: کو زور سے نیچے پھینکنا، ڈگمگا کر گرانا، کو پھاڑ ڈالنا، گرا دینا، تباہ کرنا۔هَیِّر: سخت عجلت میں، بے فکر، بے پروا، عاقبت نااندیش، کوتاہ اندیش۔هِیرا طِیقِی: ہیراطیقی تحریر۔هِیرُو غلِیفِی: تصویری، علاماتی، تصویری تحریر کا۔هِیرُوِین: ہیروویں (hereoin)۔

هیس: هَاسَ یَهِیسُ هَیسًا الشیءَ و من الشیء: کو کثرت سے لینا۔ ـــ فلانٌ: تیز چلنا۔الأهیَس: بہادر، پیٹو، کھاؤ۔ ـــ من الابل: جری اونٹ۔

هیش: اـهَاشَ یَهِیشُ هَیشًا الشیءَ: کو خراب کرنا۔ ـــ القومُ: ہیجان میں آنا، حرکت کرنا۔ کہا جاتا ہے۔هشتم علینا: تم ہمارے خلاف حرکت میں آئے۔ ـ فلانٌ: بہت کلام کرنا۔ ـــ الرجُلُ: خوش ہونا۔الهَیشَة جمع هَیشَات: مخلوط گروہ، اضطراب، فتنہ۔الهِیشَة جمع هِیَش: آپس میں بہت لپٹا ہوا درخت۔

۲۔هَاشَ یَهِیشُ هَیشًا الناقَةَ: اونٹنی کو آہستہ آہستہ دوہنا۔ ـــ المالَ: مال جمع کرنا۔

⊂ هَاشَ ـ هَیشًا: متحرک ہونا، مضطرب ہونا، بے چین ہونا، ہیجان زدہ ہونا، برانگیختہ ہونا، مشتعل ہونا، جوش میں آنا۔هِیش: جھاڑی بن، گنجان جھاڑیوں کا سلسلہ، جھاڑی، جھاڑ جھنکاڑ، جھاڑ جھنکار والا علاقہ۔هُیشَة: جوش، ہنگامہ، ہلچل، افراتفری، بے چینی، اضطراب، بے قراری، کہرام، بلوہ، فساد، اودھم، دھما چوکڑی۔

هیض: اـهَاضَ یَهِیضُ هَیضًا الطائرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔الهَیض (مص): پرندہ کی بیٹ۔الهَیضَة: هَاضَ کا اسم مرۃ: اسہال اور قے۔

۲۔هَاضَ یَهِیضُ هَیضًا فلانٌ العظمَ: ہڈی کو جڑنے کے بعد توڑنا۔ کہا جاتا ہے۔تماثل المریضُ فَهَاضَهٗ کذا: بیمار اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اس کو فلاں چیز نے دوبارہ بیمار کردیا۔ ـــ الحزنُ قلبَهٗ: غم کا دل کو بار بار لاحق ہونا۔ ـــ هٗ: کو توڑنا، چور چور کرنا۔هَیَّضَ هٗ: بمعنی هَیَّجَهٗ۔ تَهَیَّضَ تَهَیُّضًا العظمُ: ہڈی کا جڑنے کے بعد ٹوٹ جانا۔ ـــ هُ المرضُ و نحوُهٗ: کو بیماری وغیرہ کا بار بار لاحق ہونا۔اِنهَاضَ اِنهِیاضًا العظمُ: ہڈی جڑنے کے بعد ٹوٹ جانا۔اِهتَاضَ اِهتِیاضًا العظمَ: ہڈی کو جڑنے کے بعد توڑنا۔الهَیضَة: رنج وغم کا عود، بیماری کے بعد بیماری۔هَیضَةُ الکَرَی: نیند سے پیدا ہونے والی سستی۔عَظمٌ مَهِیضٌ: جڑنے کے بعد ٹوٹنے والی ہڈی۔المُستَهَاض: وہ آدمی جس کی ہڈی جڑ جانے کے بعد پھر ٹوٹ جائے، صحت یاب ہونے کے بعد بد پرہیزی سے دوبارہ بیمار ہوجانے والا۔

۳۔الهَیضَاء: لوگوں کی ایک جماعت، گروہ۔

⊂ (هَاضَ ـ هَیضًا) هِیضَ جَنَاحُهٗ: اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، وہ بے بس تھا۔هَیضَة: گرمی کے موسم کا ہیضہ، ایشیائی ہیضہ۔مَهِیض: ٹوٹا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے، پرخچے اڑا ہوا، تباہ وبرباد۔مَهِیضُ الجَنَاح: ٹوٹے ہوئے بازو یا پر والا، کمزور، سوکھا، خشک، بے بس۔

هیط: اـهَاطَ یَهِیطُ هَیطًا: شور مچانا۔هَایَطَ مُهَایَطَةً و هِیَاطًا: بمعنی هَاطَ۔ تَهَایَطَ تَهَایُطًا القومُ: قوم کا جمع ہو کر آپس کے معاملات کی اصلاح کرنا۔الهَیط (مص): کہا جاتا ہے۔مازال فی هَیطٍ و مَیطٍ: وہ شور کرنے اور شرارت سے باز نہیں آیا۔هم فی هِیاطٍ و مِیاطٍ: وہ اضطراب اور آنے جانے میں ہیں، وہ مضطرب ہیں، آجا رہے ہیں۔

۲۔هَایَطَ مُهَایَطَةً و هِیَاطًا فلانًا: کو کمزور سمجھنا۔

⊂ هَیط: شور وغل، غل غپاڑہ، غوغا، شور وغوغا، ہنگامہ، فساد۔هِیَاط: شور وغل، شور وغوغا، غل غپاڑہ، غوغا۔هِیاط مِیَاط: پرشور، فتنہ انگیز یا ہنگامہ خیز ہنگامہ، مجنونانہ اور بے لگام شور وغل، شورش، بلوا، دنگا۔

هیع: اـهَاعَ یَهِیعُ و یَهَاعُ هَیعًا الشیءُ: چیز کا سطح زمین پر پھیلنا۔ ـــ الرصاصُ: سیسہ کا پگھلنا۔ ـ ت الابلُ إلی الماء: اونٹوں کا پانی کا خواہش مند ہونا۔تَهَیَّعَ و اِنهَاعَ اِنهِیَاعًا الشیءُ: چیز کا سطح زمین پر پھیلنا۔ کہا جاتا ہے۔تَهَیَّعَ و انهَاعَ السرابُ: سراب زمین پر پھیل گیا۔الهَیعَة: سطح زمین پر چیز کا بہاؤ۔أرضٌ هَیعَةٌ: وسیع پھیلی ہوئی زمین۔الهِیَاع: پھیلاؤ۔ کہا جاتا ہے۔ریحٌ هِیَاعٌ لِیَاعٌ: تند و تیز ہوا۔المَهیَع جمع مَهَایِع: کشادہ کھلا راستہ۔طریقٌ مَهیَعٌ: کشادہ راستہ۔بلدہ مَهیَعٌ: کشادہ ملک۔

۲۔هَاعَ یَهِیعُ و یَهَاعُ هَیعًا و هَیعَةً هُیُوعًا و هَیعُوعَةً و هَیَعَانًا: بزدل ہونا، گھبرانا۔ ـــ هَیعَةً و هَاعًا: سخت حریص ہونا۔الهَائِع: فا۔ لیلٌ هَائِعٌ: تاریک رات۔ کہا جاتا ہے۔رجُلٌ هَائِعٌ لائِعٌ: کمزور، بزدل، پریشان آدمی۔الهَائِعَة: هَائِع کا مؤنث: سخت آواز، دشمن کی آواز جس سے انسان

ڈرے۔ الھَاعُ: بہت لالچ۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ ھَاعٌ لَاعٌ: کمزور بزدل آدمی۔ امرأۃٌ ھَاعَۃٌ لَاعَۃٌ: کمزور بزدل عورت۔ الھَیعَۃُ: دشمن کی آواز جس سے انسان ڈرے۔ کمزوری کے ساتھ سخت لالچ، گھبراہٹ میں ڈالنے والی آواز یا برائی۔ رَجُلٌ ھَیِّعٌ لَیِّعٌ: کمزور گھبرانے والا آدمی۔ المُتَھَیِّعُ: حیران، برائی کی طرف جلدی کرنے والا۔

۳۔ ھَاعَ یَھِیعُ و یَھَاعُ ھَیْعًا الرجلُ: بھوکا ہونا۔

۴۔ ھَاعَ یَھِیعُ و یَھَاعُ ھَیْعًا الرجلُ: بہ تکلف قے کرنا۔

۵۔ ھَاعَ یَھِیعُ و یَھَاعُ ھَیْعَۃً و ھَاعًا من الشیء: سے اکتا جانا۔

۶۔ ھَیْعَرَ ھَیْعَرَۃً المرأۃُ: عورت کا بدکار ہونا۔ ــــ و تَھَیْعَرَتِ المرأۃُ: عورت کا ایک جگہ نہ ٹکنا۔ الھَیْعَرَۃ (مص): خفت، طیش، بدکار اور خالی دماغ عورت، بھتنی۔

◌ مَھْیَعٌ جمع مَھَایِع: کشادہ پختہ سڑک۔

ھیغ: ھَیَّغَ تَھْیِیغًا المطرُ الأرضَ: بارش کا زمین کو خوب تر کرنا۔ أَھْیَغَ القومُ: قوم کا خوشحال ہونا۔ الأَھْیَغ: خوشگوار اور فراخ زندگی، بہت پانی، سرسبز سال۔ الأَھْیَغَان: تروتازگی، اور اچھی حالت یا کھانا پینا۔

ھیف: ۱۔ ھَافَ یَھِیفُ ھَیْفًا: بہت پیاسا ہونا۔ ــــ یَھَافُ ھِیَافًا ھُیَافًا تِ الابلُ: اونٹوں کا سخت پیاس کی وجہ سے منہ کھول کر گرم ہوا کی طرف رخ کرنا۔ أَھَافَ إِھَافَۃً الرجلُ: پیاسے اونٹوں والا ہونا، اِھْتَافَ اِھْتِیَافًا: پیاسا ہونا، صفت: مُھْتَاف۔ اُسْتُھِیفَ: گرم ہوا لگنے سے پیاسا ہونا۔ الھَائِف (فا): بہت پیاسا۔ الھَائِفَۃ جمع ھَوَائِف: ھَائِف کا مونث۔ سخت پیاس کی وجہ سے منہ کھول کر گرم ہوا کی طرف رخ کرنے والی اونٹنی۔ رَجُلٌ ھَافٌ: پیاس پر صبر نہ کرنے والا آدمی۔ اِبِلٌ ھَافَۃٌ: جلد پیاسے ہونے والے اونٹ۔ الھَیْف (مص): گرم ہوا جو نباتات کو خشک کردے اور حیوانات کو پیاس لگائے اور پانی کو سکھائے۔ ذَھَبَتْ ھَیْفٌ لِأَدْیَانِھَا: یہ مثل اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو اپنی عادت پر جما رہے یا اس وقت جب ہر شخص اپنی حالت پر متفرق ہو۔ الھَیْفَان و الھَیُوف و المِھْیَاف: پیاسا، سخت پیاسا، جلد پیاسا ہونے والا۔

۲۔ ھَافَ یَھَافُ و ھَیِفَ یَھْیَفُ ھَیْفًا و ھَیَفًا الغلامُ: پتلی کمر والا ہونا۔ صفت: أَھْیَف مونث ھَیْفَاء جمع ھِیف (یعنی پتلی کمر والا، پتلی کمر والی، پتلی کمر والے یا والیاں)۔

۳۔ ھَافَ یَھَافُ ھَیْفًا العبدُ: غلام کا بھاگ جانا۔

◌ ھَافَ ـ ھَیْفًا: پیاسا ہونا، پیاس سے منہ سوکھنے والا یا حلق خشک ہونے والا یا حلق میں کانٹے پڑنے والا ہونا۔ ــــ ـ ھَیْفًا: غلام کا بھگوڑا ہو جانا۔ ھَیِفَ و ھَافَ ـ ھَیَفًا و ھَیْفًا: پتلا دبلا ہونا، پتلا اور لمبا ہونا، چھریرا ہونا، کمزور ہونا۔ ھَیْف جھلسا دینے والی ہوا۔ ھَیَاف: نزاکت، چھریرا پن، دبلا پن۔ ھَیُوف: پیاس سے حلق میں کانٹے پڑے ہوا۔ ھَیْفَان: پیاسا، پیاس سے سوکھے منہ، خشک حلق والا اور حق میں کانٹے پڑا ہوا۔ أَھْیَف مونث ھَیْفَاء جمع ھِیف: دبلا پتلا، پتلا اور لمبا، چھریرا، نازک کمزور۔

ھیق: أَھْیَقُ الظَّلِیمُ: شتر مرغ کا لمبا ہونا۔ الھَیْق جمع أَھْیَاق و ھُیُوق م ھَیْقَۃ: شتر مرغ۔ ــــ من الرجال: بہت لمبا تڑنگا یا لمبا پتلا آدمی۔ الأَھْیَق: لمبی گردن والا۔

ھیک: ۱۔ ھَیَّکَ تَھْیِیکًا: جلدی کرنا، کھودنا۔

۲۔ ھَیْکَل: مندر، بڑی عمارت، قربان گاہ، ڈھانچا، ڈھانچ، عمارت کا ڈھانچہ، جسم، چوکھٹا، (موٹر وغیرہ کا) بنیادی ڈھانچہ یا نچلا حصہ، بہت ہی بڑا، عظیم، بہت وسیع، بہت ضخیم۔ مناوَرَۃ ھَیْکَلِیَّۃ: عملہ کی نقل و حرکت، بنیادی مشق۔

ھیل: ۱۔ ھَالَ یَھِیلُ ھَیْلًا علیہ الترابَ: پر مٹی ڈالنا۔ ھَیَّلَ تَھْیِیلًا علیہ الترابَ: پر مٹی ڈالنا، پر بہت مٹی ڈالنا۔ تَھَیَّلَ تَھَیُّلًا الترابُ: مٹی پڑنا یا ڈالی جانا۔ اِنْھَالَ اِنْھِیَالًا الترابُ: مٹی پڑنا یا مٹی ڈالا جانا۔ ــــ القومُ علی فلان: پر ٹوٹ پڑنا اس کی مار پیٹ کرنا یا اسے گالی گلوچ کرنا۔ الھَال: گری ہوئی ریت، ڈھیر لگی ریت۔ رملٌ ھَالٌ: ڈھیر لگی ریت۔ الھَیْل (مص): ڈھیر لگی ریت، ریت کا ڈھیر۔ جَاءَ بالھَیْلِ و الھَیْلَمَان: وہ بہت مال یا ریت اور ہوا لایا۔ الھَیَال: ڈھیر لگی ریت، ریت کا ڈھیر۔ الھَیُول: وہ ذرات جو روشن دان میں سے دھوپ کے اندر آتے وقت دکھائی دیتے ہیں۔

۲۔ الھَال (ن): الائچی۔ الھَالَۃ جمع ھَالَات: چاند کے اردگرد کا حلقہ، ہالہ۔ الھَیُولَی و الھَیُولِی جمع ھَیُولِیَات: ابتدائی مادہ۔ ھَیُولِیٌّ و ھَیُولَانِیٌّ: منسوب بہ ھَیُولَی، ابتدائی مادہ کا، ابتدائی مادہ سے متعلق، (یونانی لفظ)۔

۳۔ ھَیْلَلَ ھَیْلَلَۃً: لا الٰہ الا اللہ کہنا۔

۴۔ الھِیلیُوم (ک): ہلیم: ایک ہلکی گیس (helium)۔

◌ ھَالَ ـ ھَیْلًا ہ علی: پر کچھ ڈالنا، گرانا، پھیلانا، چھڑکنا۔ ھَیَّلَ و أَھَالَ ہ علی: پر کچھ ڈالنا، پھیلانا، چھڑکنا۔ ــــ ہ: (ہوا کا مٹی یا ریت) کا ڈھیر لگانا۔ اِنْھَالَ: ڈھیر لگنا، ڈھیر کی صورت میں گرنا یا ڈالا جانا۔ (بموں کا) ٹپ ٹپ گرنا۔ ــــ علی ب: پر کی بوچھاڑ کرنا، بھرمار کرنا۔ ــــ علی ب: پر سے حملہ کرنا، چڑھ دوڑنا، پر کیبوچھاڑ کرنا۔ ــــ علیھا ضربًا و شتمًا: (عورت پر) گھونسوں اور گالیوں سے ٹوٹ پڑنا۔ ھَیْل: ڈھیر لگی ریت۔ الھَیْل و الھَیْلَمَان: ڈھیروں روپے، بڑی رقمیں۔ ھَیَلَان: ریت کا ڈھیر۔ اِنْھِیَال الأرض: مٹی کا تودہ جو گر پڑے (landslide)۔ ھَیُول: ذرہ گرد کا ذرہ۔ ھَیُولَی و ھَیُولِی: ابتدائی مادہ، مادہ، اصل، اصلی جزو۔ ھَیُولِی: مادی۔ ھَیُولَانِی: مادی، جسمانی ضرورتوں کا یا ان کے متعلق۔

ھیم: ۱۔ ھَامَ یَھِیمُ ھُیَامًا: پیاسا ہونا۔ ــــ ھَیْمًا و ھُیُومًا و ھِیَامًا و ھَیَمَانًا و تَھْیَامًا بکذا: سے محبت کرنا۔ ــــ علی وجھہ: آوارہ پھرنا۔ ھَیَّمَہ الحبُّ: کو محبت کا دیوانہ کر دینا۔ تَھَیَّمَ تَھَیُّمًا الھوی فلانًا: محبت کا کسی کو پاگل کر دینا۔ اُسْتُھِیمَ فؤادُہ: محبت وغیرہ کی وجہ سے عقل جاتی رہنا۔ صفت: مُسْتَھَامُ الفؤاد۔ الھَائِم فا جمع ھُیَّم و ھُیَّام: حیران۔ الھَیَام جمع ھُیُم: ہمیشہ گرتی رہنے والی ریت۔ الھُیَام: سخت پیاس، عشق کا جنون، اونٹوں کی ایک بیماری جس میں سخت پیاس لگتی ہے۔ الھُیَّام: ضمیر کی خلش رکھنے والے عشاق، شکوک و شبہات رکھنے والے عاشق۔ الأَھْیَم مونث ھَیْمَاء جمع ھِیم: ھُیَام کی بیماری والا (اونٹ)۔ رَجُلٌ أَھْیَمُ: سخت پیاسا۔ لیلٌ أَھْیَم و لیلۃٌ ھَیْمَاء: وہ رات جس میں ستارے نہ ہوں۔ الھَیْمَاء: بے آب ریگستان۔ الھَیْمَان مونث ھَیْمَی جمع ھِیَام و ھَیَامَی: پیاسا۔ ہُیام کی بیماری میں مبتلا۔ رجلٌ ھَیْمَانٌ: محبت کی وجہ سے شیفتہ و سرگشتہ آدمی۔ الھَیُوم: حیران۔ المَھْیُوم: سخت پیاس والا۔ ھُیَام کی بیماری میں مبتلا۔ قلبٌ مُسْتَھَامٌ: محبت و عشق کی وجہ سے پریشان و سرگشتہ دل۔

۲۔ ھَامَ یَھِیمُ ھِیَامًا: کہا جاتا ہے: ھِمْ لِنَفْسِکَ: اپنے آپ کا خیال رکھو۔ اِھْتَامَ اِھْتِیَامًا لنفسہ: اپنے نفس کے لئے حیلہ کرنا، تدبر نکالنا۔

۳۔ تَھَیَّمَ تَھَیُّمًا فلانٌ: اچھی چال چلنا۔

۴۔ کہا جاتا ہے: ھَیْمُ اللّٰہِ: اللہ کی قسم۔

۵۔ ھَیْمَنَ ھَیْمَنَۃً: آمین کہنا۔ ــــ الطائرُ علی فراخہ:

پرندے کا اپنے بچوں پر پَر پھیلانا۔ــــ فلانٌ علی كذا: کی نگرانی ونگہبانی کرنا۔ المُهَيمِن و المُهَيْمَن: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔ بمعنی نگران و حفاظت کرنے والا، لوگوں کے ارزاق و آجال کا کفیل و ذمہ دار۔

○ هَامَ ـ هَيْمـاً و هَيَمَاناً ب: کی محبت میں گرفتار ہونا، سے محبت کرنا، کے بارے میں سرگرم یا پرجوش ہونا، وجد کی حالت میں ہونا، مضطرب، بدحواس یا پاگل ہونا، آپے سے باہر ہونا، بے حد خوش ہونا، سودائی ہونا، پر جمے رہنا۔ــــ: مارے مارے پھرنا، اِدھر اُدھر پھرنا، منہ اٹھائے پھرنا۔ هـام علی وجهه: بلا مقصد اِدھر اُدھر یا مارا مارا پھرنا۔ هَـامَ فی وِدْيَـانٍ: پاگل اور مدہوش ہونا، اپنے آپ میں نہ ہونا۔ هَـامَ بـانظاره: نگاہوں کو اِدھر اُدھر پھرانا۔ ـ هُياماً و هِياماً ب: کی پیاس لگنا، کے لئے بیتاب ہونا۔ هَيَّمَ هُ: کو حواس باختہ کرنا، بوکھلا دینا، حیران کرنا، الجھاؤ میں ڈالنا، چکر میں ڈالنا، کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھانا، گمراہ کرنا، (محبت کا) کو لٹو کرنا، فریفتہ کرنا، لبھانا، پر جادو کرنا، موہ لینا، بے خود کر دینا۔ اِسْتَهْيَمَ: لٹو ہونا، فریفتہ ہونا، سحر زدہ ہونا، لبھایا جانا، بے خود ہو جانا، پرجوش محبت میں گرفتار ہونا۔ هُيَـام و هِيَـام: پرجوش محبت، سخت پیاس۔ هَيُـوم: بوکھلایا ہوا، حیران، الجھن میں مبتلا، پریشان، ابلہ فریبی کا شکار۔ هَيْمـان مونث هَيْمَى جمع هِيـام: محبت میں پاگل، بہت پیاسا۔ هَائِم جمع هُيَّم و هُيَّام: پریشان، ابلہ فریبی کا شکار، چکرایا ہوا، فریب خوردہ، بوکھلایا ہوا، متذبذب، حیرانِ متحیر، بے خود، آپے سے باہر عاشق، محبت میں دیوانہ۔ مُسْتَهام: عاشق، محبت میں دیوانہ۔

○ هَيْمَنَ: آمین کہنا۔ــــ علی: کی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، کو نگاہ میں رکھنا، پر نگاہ رکھنا، پر کنٹرول کرنا۔ هَيْمَنَة: نگرانی، انتظام، کنٹرول، محدود حکمرانی، اقتدار، فرمانروائی، برتری، غلبہ، بالادستی۔ مُهَيْمِن: نگران، کنٹرول کرنے والا، حفاظت کرنے والا، سرپرست ج علی: کا ماہر، پر حاوی، غالب، قادر، قابو رکھنے والا۔

هین: الهَيْنَم: روئی۔ الهَيْنَمَة: آہستہ آواز۔ الهَيْنُوم: مبہم کلام۔

هیه: اِيهِ هِيهِ: کسی چیز کو دھتکارنے کا کلمہ۔ یہ کلمہ استہزاء بھی ہے۔

۲۔ هَيْهَـات: اسم فعل (آخری حرف ہر سہ حرکات کے ساتھ۔ وہ دور ہوا۔ اس میں کئی لغات ہیں جن میں سے ايهـات و ايهـان و هَيْهَان و هـايْهَات و هَايَهان (حرف آخر میں ہر سہ حرکات کے ساتھ مبنی و مُعْرَب۔ هَيْهاهُ و أيها: میں آخری حرف ساکن ہے۔

هیو: الهِيُوفَارِيقُون (ن): ایک پودا یا کونپل جس کے پھول زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ شمالی نصف کرہ کے معتدل آب و ہوا والے ممالک میں اگتا ہے بعض طبی فوائد کا حامل ہے۔

هیی: هَيَا: حرفِ ندا البعید کے لئے۔ اس کی اصل أيا ہے۔ هَيّ بن بَيّ و هَيَّانُ بنُ بَيَّانَ: وہ شخص جو خود بھی غیر معروف ہو اور اس کا باپ بھی غیر معروف ہو۔ هَـيَّ: اسم فعل بمعنی امر: اپنے کام میں جلدی کرو۔ کاف خطاب، لاحق کر کے هَيَّكَ کہتے ہیں۔ تثنیہ میں هَيَّا اور جمع میں هَيُّوا بھی کہتے ہیں۔ هَيَّـا هَيَّا: اسم فعل بمعنی امر (اَسْرِعْ): جلدی کرو۔ الهَيَّاة: معاملہ۔ شان۔ کہا جاتا ہے ماهَيَّاتُهُ: اس کا کیا معاملہ ہے۔

○ هَيْنَمَ: آہستہ بڑبڑانا۔

هِيـهُ: او! اوہ! آؤ چلیں! تیز تیز قدم رکھو، خوش باز نظر آؤ۔ هَيْهَـاتُ هيهـات و هَيْهَاتِ: لیکن اف، مدعا سے دور! غلط! کیا انداز فکر ہے! کتنا لچر ہے! هَيْهَـات ان: یہ بات قطعاً ناممکن ہے کہ...... هَيْهَـات ان: یہ بات قطعاً ناممکن ہے کہ...... هَيْهَاتَ اي يفعل كَذَا: وہ ایسا کرنے سے کتنا دور ہے! هيهـات بين هذا و ذاك: اِس میں اور اُس میں کتنا فرق ہے۔ یہ کتنے مختلف ہیں! هيهـات لك ذلك: اور یہ تمہارے لئے کتنا ناممکن ہے!

ی: حروف تہجی کا اٹھائیسواں حرف اور حروف ابجد میں دس کے برابر ہے۔ مونث کا ضمیر ہے جیسے تَقُومِینَ وَ قُومِیْ اس کے علاوہ متکلم کا ضمیر بھی: جیسے ضربنی و کِتابی میں معنی بالترتیب: تو کھڑی ہوتی ہے، تو کھڑی ہو، اس نے مجھے مارا اور میری کتاب۔

یا: قریب اور بعید کے لئے حرف ندا۔ کبھی منادیٰ بھا محذوف ہوتا ہے جیسے یالیتنی کنتُ معھم: (اے خدا) کاش میں ان کے ساتھ ہوتا یا رُبَّ کاسِیَةٍ فِیْ الدُّنیا عارِیَةٌ یَوْمَ القِیامَةِ: (اے خدا) دنیا میں اکثر لباس میں ملبوس قیامت کے دن برہنہ ہونگے یا ان جیسی مثالوں میں صرف تنبیہ کے لئے آتا ہے جیسے: اتانی رَجُلٌ ویالہ رجلاً اومن رجل: میرے پاس ایک مرد آیا، اُف کیا مرد تھا! یَالَكَ من فارسٍ ہائے تو کیا شہسوار ہے!۔ کیونکہ یہ حرف ندا بھی ہے اور اس کے بعد لام تعجب کا ہوتا ہے۔

○ یا حَسْرَتِی ہائے میری بدبختی۔ یا سَلَام توبہ، اے توبہ، معاذ اللہ خدا کی پناہ۔ یاما کس قدر! کتنے! کتنی بار!، کتنی دفعہ! یَالِلّٰہ: کیا مصیبت ہے، کتنا بدبخت ہے۔ یاتری تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے تعجب ہے۔

○ الیابان جاپان (ایک ملک کا نام) یابانی: جاپانی (جاپان کا باشندہ)۔ یابانیون (جاپانی لوگ) جاپانی باشندے۔

○ یارْدَ جمع یاردات: گز (لمبائی ناپنے کا پیمانہ)

یَازِرْجَة: جوتش، نجوم، ستارہ شناسی یَازِرْجِی جمع یازرجیا جوتشی، نجومی منجم۔

یاس: یَئِسَ یَیْأَسُ ویَیْئِسُ یأساً ویَئَاسَةً منہُ: سے نا امید و مایوس ہونا صفت فاعلی: یَائِسٌ و یَئُوسٌ ویَؤُوس جمع یُؤُوس بصفت مفعولی: مَیْؤُوس منہ

- (یَئِسَ کبھی عَلِمَ (جاننا) کے معنی میں بھی آتا ہے: جیسے اس قول میں: أَلَمْ تَیْأَسُوا انی ابنُ فارسِ زَهْدَمِ: کیا تم نہیں جانتے کہ میں فارس زہدم کا بیٹا ہوں)۔ یَئِسَ یَأْسًا و یَئَاسَةً تِ المرأةُ: عورت کا بانجھ ہونا صفت یَائِس۔ أَیْأَسَ إِیئَاسًا: کو نا امید کرنا ـ اللّٰہُ المرأةَ: اللہ تعالیٰ کا عورت کو بانجھ کرنا۔ أَیَاسَ إِیَاسًا و مُؤَایَسَةً هُ: کو نا امید کرنا اِتَّأَسَ اِتِّئَاسًا و اسْتَیْأَسَ اِسْتِیئَاسًا منہُ: سے مایوس و نا امید ہونا۔

الیَأس و الیَأسَة مایوسی، نا امیدی۔

○ یَئِسَ یَأْسًا ویَآسَةً من: کو چھوڑ دینا، سے دستبردار ہونا، دست کش ہونا، کے بغیر گزارہ کرنا، کی سب امید چھوڑ دینا۔ سِنُّ الیَأس: حیض بند ہونے کی عمر۔ أَیْأَسَ ہ: کو دستبردار کرانا، دستکش کرانا، کو امید سے محروم کرنا۔ اِسْتَیْأَسَ بمعنی یَئِسَ۔ یَأس: دستبرداری قطع تعلق، استغناء، صبر، قناعت، توکل، تسلیم و رضا، نا امیدی، مایوسی، محرومی۔

یَؤُوس: نا امید، مایوس، مایوس کن، بے آس یَائِس: نا امید، مایوس، مایوس کن، بے آس مَیْؤُوسٌ منہ: ضائع، لاحاصل۔ مایوس کن (مقصد، نصب العین)۔ مُسْتَیْئِس: نا امید، مایوس، جس سے کوئی توقع نہ ہو، مایوس کن بے آس۔

○ یاسَمِین: چنبیلی، یاسمین، جوہی۔

○ یاقِنت: سنبل کی قسم کے پودے۔

○ یاطَاش: خدمة بالیاطاش: ٹھیکہ کا کام، فوری اجرت کے کام، متفرق کام۔

○ یافا: جافا (جنوب غربی فلسطین کی) بندرگاہ کا نام۔

○ یَافُطَة ویَافِطَة: سائن، سائن بورڈ، سجاوٹی تختی، زیبائشی تختی، آرائشی لوح، نام کی تختی، دروازہ کی تختی۔

○ یاقة جمع یاقات: کالر Collar

○ یَاقُوت واحد یَاقُوتَة جمع یَوَاقِیت: سنبل، نیلم۔ یاقُوت اَحْمَر: لعل، یاقوت، یاقوت۔ ـــــ اَخْضَر: سبز یاقوت یا نیلم، یاقوت جمری: ایک خوش رنگ پتھر، لعل، یاقوت، نگینہ۔

یامِیش: خشک پھل۔

یانِسُون بادیان: سونف۔

○ یَاوِر جمع یَاوِرِیَة: افسر اعلیٰ کا مددگار (اجونٹ) اے ڈی کانگ (Aide- de- camp)

یای جمع یایات: کمانی، چکردار کمانی۔

یای: یَأْیَأ یَأْیَأَةً و یَأْیَأَ القوم قوم کو پکارنا ـــــ بالابل: اونٹوں کو۔ ای کہکر ٹھہرانا۔ ای سے اونٹوں کو ڈانٹتے ہیں۔ یأیأ لوگوں کو جمع کرنے کے لئے اس سے پکارا جاتا ہے۔ الیَأْیَاء: ـ یُؤْیُؤْ نامی شکاری پرندے کی چیخ۔ الیُؤْیُؤ جمع یَئَایِی (ح) باز سے مشابہ ایک قسم کا شکاری پرندہ اسے الجلم بھی کہا جاتا ہے۔

یبب: یَبَّبَ المنزلَ: گھر کو ویران کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ خَرَّبُوهُ ویَبَّبُوهُ: انہوں نے اسے تباہ و ویران کردیا۔ الیَبَاب: ویران۔ منزلٌ خرابٌ یَبَابٌ تباہ اور ویران گھر۔

یبد: الأبید (ن) جو کی طرح کا ایک پودا۔

یبس: یَبِسَ یَیْبَسُ و یَیْبِسُ یَبْسًا و یُبْسًا و اِتَّبَسَ: خشک ہونا صفت: یَبْس و یَبِس و یَابِس و یَبُوس و یَبِیْسٌ و أَیْبَس: کہا جاتا ہے۔ یَبِسَ ما بینهما ان دونوں کے آپس کے تعلقات ٹوٹ گئے۔ یَبَّسَ الشیءَ: کو خشک کرنا۔ أَیْبَسَ المکانُ: کسی جگہ کی نباتات کا خشک ہونا ـ القومُ: قوم کا خشک زمین پر

چلنا۔ العودُ ٹہنی کا خشک ہونا۔ الشیءَ کو خشک کرنا کہا جاتا ہے: ایْبَسْ یا رَجُل: اے مرد، چپ رہ اِستَیْبَسَ الریقُ: تھوک کا خشک ہونا۔ الیابس جمع یُبَّس: فا، رجلٌ یابسٌ: بے خیر آدمی حجرٌ یابسٌ: سخت پتھر الیَبْس (مص) خشک۔ جس طرح راکب کی جمع رَکب ہے اسی طرح یہ یابس کی جمع ہے۔ کہا جاتا ہے: رَجُلٌ یَبْس: بے خیر آدمی الیَبْس: خشک، تری کے بعد خشک جگہ۔ شاۃٌ یَبْسٌ: بے دودھ کی بکری۔ یَباسٌ: خشک۔ الیَبُوسَۃُ: خشکی۔ یَبِیْسُ الماءِ: پسینہ ـــ الأَیْبَسان کلائی یا پنڈلیوں کی دو ہڈیاں ـــ الأیابس: الأَیْبَس کی جمع: سخت چیزیں جن پر تلواریں آزمائی جاتی ہیں۔ المِیْبَاس: پودوں کو خشک کرنے والی ہوا۔

○ یَبِسَ ـــ یُبْسًا و یُبُسًا: خشک ہونا یا ہو جانا یَبَّسَ و أَیْبَسَ ہ: کو خشک کرنا۔ یَبْس و یَبِس خشک، خشک شدہ، سکھایا ہوا، رطوبت نکالا ہوا، سنوف بنایا ہوا، بے آب و گیاہ، بنجر۔ یُبُوسَۃ: خشکی (تحریر یا تقریر کی خشکی بھی) یابس: خشک، خشک کیا ہوا، سکھایا ہوا۔ رطوبت خارج کیا ہوا، سنوف بنایا ہوا، بے آب و گیاہ، بنجر، سخت، مضبوط، بے لوچ، ٹھیک پیوست کیا ہوا، اچھی طرح چنا یا جمایا ہوا۔ الیابسۃ زمین، خشک زمین، خشکی، ٹھوس جگہ۔

یتع: الیَتُوع و الیَتُّوع جمع یَتُوعات دودھ والے پودے۔

یتم: یَتِمَ یَیْتَمُ یُتْمًا و یَتَمًا الصبیُّ من ابیہ: باپ مرنے پر بچہ کا یتیم ہونا۔ ـــ یَیْتَمُ یَتَمًا کوتاہی کرنا، سستی کرنا، جھکنا، دیر کرنا۔ ـــ من هذا الامر: سے رہائی پانا یَتَمَ یَیْتُمُ یُتْمًا و یَتَمًا الصبیُّ من ابیہ: باپ مرنے کی وجہ سے بچہ کا یتیم ہونا۔ یَتَّمَ ہُ: کو یتیم کرنا أَیْتَمَ ہُ: کو یتیم کرنا۔ ـــ ت المرأۃُ: عورت کی اولاد کا یتیم ہونا صفت: مُوْتِم جمع مَیَاتِیم۔ تَیَتَّمَ الصبیُّ: بچہ کا یتیم ہونا۔ الیُتْم (ص) غم الیُتْم (مص) یکتائی، یتیم کی حالت، یتیمی، تاخیر الیَتَم (مص): یکتائی، یتیم کی حالت، یتیمی، حاجت کہا جاتا ہے: فی سیرہ یَتَمٌ: اس کی چال میں کمزوری و سستی ہے۔ صبیٌّ یَتْمانٌ: یتیم بچہ۔ الیَتِیم: یکتا، اکیلا، لاثانی، بے نظیر (کہا جاتا ہے بیتٌ یتیم: بینظیر گھر، بلدٌ یتیم: لاثانی ملک) ریت کا اکیلا قطعہ۔ ـــ جمع أیْتَام و یَتَامی و یَتَمۃ و مَیْتَمۃ و یَتَائِم: نابالغ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو۔ من البهائم: وہ جانور جس کی ماں مر گئی ہو۔ الیَتِیمَۃ جمع یَتَامی: یتیم کا مونث۔ علیحدہ ریگستان، دُرَّۃ یَتِیمَۃ: قیمتی بے نظیر موتی۔ المَیْتَم جمع مَیَاتِم: یتیم خانہ الحربُ مَیْتَمَۃٌ: لڑائی بچوں کو یتیم بنانے والی ہے (لڑائی سے مرد ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے یتیم)

○ مَیْتَم جمع مَیَاتِم و ملجأُ الأیتام و دارُ الأیتام: یتیم خانہ۔ مُیْتَم یتیم، بے ماں باپ کا، یتیم کیا ہوا۔

یتن: یَتَّنَ تَیْتِینًا و أَیْتَنَ إِیْتَانًا تِ المرأۃُ او الناقۃُ الولدَ: عورت یا اونٹنی کا پاؤں کی طرف سے پیدا ہونے والے بچے جننا صفت: مُوتِن و مُوتِنَۃ: وہ بچہ جو پیدائش کے وقت سر سے پہلے پاؤں نکالے: مَوْتُون کہلاتا ہے۔ جب کہ قیاس کے مطابق مُوْتَن ہونا چاہئے۔ الیَتْن: پاؤں کے بل بچہ کی پیدائش۔

○ یَثْرِب مدینہ منورہ کا اصلی نام۔

○ یَحْبُور: شترمرغ کی قسم کے ایک پرندہ کا چوزہ جسے تغدار یا کلاڈوگ بھی کہا جاتا ہے۔

یحر: المیحار: کھیلنے کا ڈنڈا۔ چوگان۔

○ المیحار عصائے حکومت، عصائے شاہی، بلا، چوگان

یحم: ا۔ الیَحْمُور: سرخ، لال (ح): چھوٹی دم کا بارہ سنگا۔

۲۔ الیَحْمُوم سخت سیاہ، بہت سیاہ

یخت: الیَخْت جمع یُخُوت: بجرا (دورہ یا سیر کی کشتی) (Yacht)

○ یَخْضُور: پودوں کو سبز رنگ دینے والا مادہ کلورفل Chlorophyll

○ یَخْنَۃ و یَخْنِی: مسالہ دار گوشت کے پسندے چٹ پٹا سالن، قلیہ، ترکاری دار سالن کی ایک قسم۔

یدع: یَدَّعَ الثوبَ: کپڑے کو سرخ رنگنا أَیْدَعَ الحجَّ علی نفسہ: احرام کے وقت خوشبو لگا کر حج اپنے اوپر واجب کرنا۔ الأَیْدَع (ن) زعفران، بقم کی لکڑی (دیکھو البَقّم)

یدی: یَدَی یَدِی یَدْیًا الرجلَ: کے ہاتھ پر مارنا۔ صفت فاعل: یادٍ صفت مفعول: مَیْدِیّ۔ یَدِیَ یَیْدَی یَدًی فلانٌ من یدہ: کا ہاتھ جاتا رہنا، خشک ہونا ـــ الرجُلُ: کمزور ہونا ـــ فلانٌ من فلانٍ: کسی کا کسی سے فائدہ حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے: إنَّ لفلانٍ [illegible] یَیْدِی بہ و یَبُوع: فلاں شخص نے اپنا مال ہاتھ بڑھا بڑھا کر بیچ دیا۔ یَادَی مُیَادَاۃً الرجُلَ: کو بدلہ دینا، دست بدست دینا۔ أَیْدَی إِیْدَاءً عند فلان و الیہ: کسی پہ انعام کرنا صفت فاعلی مُودٍ صفت معفولی: مُوْدًی الیہ۔ الیَد (ع ا) ہتھیلی۔ ہاتھ، کلمہ مونث ہے۔ اس کا لام محذوف ہے۔ اصل میں یَدْیٌ ہے۔ تثنیہ: یَدَان جمع الأَیْدِی و الیُدِیّ و جمع الجمع الأیادِی۔ الأیادی کا اکثر استعمال نعمت کے معنی میں ہوتا ہے الأیدی کی جمع الأیدِین ہے (کہا جاتا ہے لَہُ یدٌ بیضاءُ فی هذا الأمر: وہ اس امر میں ماہر ہے۔ بعتُہُ یدًا بیدٍ: میں نے اس کو نقد بنقد بیچا۔ ذهَبُوا ایادی سبا یا ایدی سبا: وہ سب بکھر گئے) نعمت، احسان، جمع یُدِیّ و یَدِیّ و یِدِیّ و أَیْدٍ، کھانا، فریادرسی، جاہ، مرتبہ، طاقت، قدرت، کہا جاتا ہے مالك علیہ یدٌ: تم کو اس پر طاقت نہیں۔ لایَدَیْنِ لكَ بهذا: تجھے اس کی طاقت و قوت نہیں۔ یدُ اللہ مع الجماعۃ: اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور حفاظتی چھاتہ جماعت کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جماعت کی حفاظت کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ الیدُ لفلانٍ علی فلانٍ: فلاں شخص کا فلاں شخص پر حکم اور غلبہ ہے۔ هذا فی یدی: یہ میری ملک میں ہے۔ الامرُ بید فلانٍ: معاملہ فلاں شخص کے ہاتھ میں ہے۔ یدی رهینۃٌ بکذا: میں اس کا ضامن ہوں۔ الید جماعت کے معنی میں بھی آتا ہے، کہا جاتا ہے۔ القوم علیہ یدٌ واحدۃٌ: قوم اسی پر ظلم کرنے یا اس سے دشمنی کرنے میں متحد و متفق ہے۔ راستہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: اخَذَ بهم یدَ البحر: وہ انہیں سمندر کے راستہ پر لے گیا۔ ظلم سے روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ضرب القاضی علی یدہ: قاضی نے اسے تصرف سے روک دیا۔ ذلت و ندامت کے معنی میں، کہا جاتا ہے: سُقِطَ فی یَدَیْہِ: وہ نادم ہوا۔ أَعْطی بیدہ: وہ مطیع و فرمانبردار ہوا، لقیتُہُ أَوَّلَ ذات یَدَیْن: میں اس سے سب سے پہلے ملا۔ یدُ الطائر: پرندہ کا بازو۔ یدُ الدهر: مدت زمانہ۔ یدُ الفاس کلہاڑی کا دستہ یدُ القوس: کمان کی ہر دو جانب الیدُ العُلیا: دینے والا ہاتھ۔ الیدُ السُّفلی: مانگنے والا یا روکنے والا ہاتھ۔ یدُ الجوزاء (فلک) بستارے۔ الیدُ و الیَدَی و الیَدَۃ بمعنی ید (ہاتھ)۔ الیَدَوِی ہاتھ کا۔ الیَدِیّ ماہر، ہاتھ کا، ثوبٌ یَدِیٌّ: وسیع کپڑا عیش یَدِیّ: آسودہ زندگی۔ الیُدَیَّۃ: ید کی تصغیر: چھوٹا ہاتھ۔ ننھا منا ہاتھ۔ الیَدْیاء: ماہر عورت۔ المُوْدِی محسن، مُنْعِم ـــ المُوْدَی الیہ: انعام کیا ہوا۔ المَیْدِیّ جڑ سے کٹے ہاتھ والا۔ ظبیٌ مَیْدِیٌّ: جال میں اگلی ٹانگ پھنسی ہوئی ہرنی۔

○ ید (مونث) جمع أیْدٍ و أیادٍ: ہاتھ، اگلی ٹانگ، دستہ، طاقت، کنٹرول، تسلط، اثر، اختیار، اقتدار، مدد، امداد،

ذاتی قبضہ، حقیقی تسلط، بہبود، مہربانی، کرم فرمائی۔ یداً بیدٍ: ذاتی، ذاتی طور پر، دست بدست۔ بین یدی: کے سامنے۔ بَیْنَ یَدَیْہِ: اس کے سامنے، اس کی موجودگی میں، اس کی استطاعت یا بس میں۔ بِاَیْدِیْنَا یا بَیْنَ اَیْدِیْنَا: ہمارے ہاتھ میں، ہماری تحویل میں، ہمارے سپرد۔ الکلام بینَ ایدیکم: تم (لوگوں کے ایک گروہ کے سامنے) تقریر کر سکتے ہو: بحث میں حصہ لے سکتے ہو۔ مَا بین ایدینا مِن: جو ہمارے سامنے ہیں یا جو لوگ تعارف کیلئے ہماری خدمت میں پیش ہوں۔ تحتَ الید: دستیاب، قریب ہی، ممکن الحصول۔ تحتَ یدِہٖ: اس کے اختیار میں، اس کے تسلط میں۔ عَلٰی یدٍ جمع علٰی اَیْدِیْ: کے ہاتھ یا ہاتھوں میں۔ علی یدہ یا عن یدہ: اس کی مدد سے، اس کی مشفقانہ مدد سے۔ عَلٰی اَیْدِی النّاسِ: دوسرے لوگوں کی مدد سے، دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے۔ فِی الیدِ: موجود، دستیاب، ممکن الحصول۔ یدُ الجَوزاء: ستاروں کے مجموعہ کا ایک چمکدار ستارہ۔ لَا اَفْعَلُہٗ یدَالدھر: میں اسے کبھی نہیں کروں گا۔ یدُ المِظَلَّۃِ: چھتری کا دستہ۔ یدُالنکاح: شادی کا پروانہ، سند۔ ذُو الید: بااثر، ذی اثر، بارسوخ، حقیقی تسلط کا حامل، قابض۔ ساعۃ الید: کلائی کی گھڑی۔ سَبطُ الیدین: فیاض، سخی، دریا دل، کریم، کشادہ دل۔ شَنْطَۃُ الید: ہینڈ بیگ۔ شغل الید یا عمل الید: ہاتھ کا کام، دستی کام۔ صَفادُ الید: ہتھکڑی۔ صِفرُ الیدین: خالی ہاتھ۔ عَرَبَۃُ الید: ہاتھ گاڑی، ہتھ گاڑی۔ قُنبُلۃُ الید: دستی گرینیڈ۔ یدٌ بیضاء جمع ایادٍ بیضاء: فائدہ، بہتری، بہبود، مہربانی، ہمدردی، کرم فرمائی، نوازش، مہارت، اہلیت، استعداد، لیاقت، علمیت، قابلیت، فارغ البالی، کارنمایاں، بڑا کام۔ لہ یدٌ بیضاءُ فی: وہ میں یا کا ماہر، تجربہ کار ہے۔ وہ میں یا پر تفوق رکھتا ہے، بالادست ہے۔ یدٌ مُبْطِلۃ: ناجائز قبضہ۔ ید مُحِقّۃ: جائز قبضہ۔ بقی مکتوف الأیدی أمام: کے سامنے بے کس و لاچار کھڑا ہونا۔ دَقَّ یداً بیدٍ: تالی بجانا۔ ذَھَبُوا اَیْدِی (یا اَیادِیَ) سَبا: سب طرف بکھر جانا یا منتشر ہونا۔ اَسْدَی الیہ یداً: سے ہمدردی کرنا، پر نوازش کرنا، مہربانی کرنا۔ سُقِطَ فی یدِہٖ: سہا ہوا یا متحیر کھڑا ہونا، گھبرانا، حواس باختہ ہونا۔ اُسْقِطَ فی یدہ: بمعنی سُقِطَ فی یدہ۔ شَدَّ یدہ علی: سے چمٹ جانا۔ مشغولٌ بالید یا مصنوعٌ بالید: ہاتھ کا بنایا ہوا۔ طَلَبَ یدَالمرأۃ: عورت کو شادی کا پیغام دینا، سے شادی کی درخواست کرنا۔

اعطاہُ شیئاً عن ظھرِ یدٍ: کو کوئی چیز مفت دینا، کو کوئی چیز بطور تحفہ دینا۔ الید العاملۃ: محنت کش طبقہ، محنت کش لوگوں کا گروہ۔ قَدَّمَہٗ بالید: کو ذاتی طور پر دینا، پیش کرنا، سپرد کرنا۔ الایدی العاملۃ: افرادی قوت، بل مزدور، محنت کش لوگ، کاریگر، مزدور، ملازم لوگ۔ لہ عندی یدٌ: میں ایک نوازش کی وجہ سے اس کا احسانمند، شکرگزار یا ممنون ہوں۔ لہ یدٌ فی: اس کا (اس) میں ہاتھ ہے۔ لہ الیدُ الطُّولٰی فی: میں ذی اثر ہونا، زور آور ہونا، پر فیصلہ کن اختیار رکھنا۔ لہُ عندَ الناسِ یدٌ: وہ دوسرے لوگوں پر بہت اثر رکھتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مالی بذلک یدان: یہ میری طاقت میں نہیں۔ مَدَّ ید المساعدۃ (یا المعونۃ یا العون): مدد کا ہاتھ بڑھانا۔ ھم یدٌ واحدۃٌ عَلَیَّ: وہ میرے خلاف ملے ہوئے ہیں۔ وَضَعَ یدَہٗ علی: پر قبضہ کرنا۔ یدُہٗ قصیرۃ: وہ نااہل ہے، اس کے اختیارات محدود ہیں۔

یَدَوِی: ہاتھ کا۔ شغل یَدَوِی یا عمل یَدَوِی: ہاتھ کا کام۔ صناعۃ یَدَوِیَّۃ: دستکاری۔ طراز یَدَوِیٌّ: (کسی آلہ کا) ہاتھ سے کام کرنے والا نمونہ۔ العَمَلۃُ الیدویون: ہاتھ سے کام کرنے والے، محنت کش لوگ۔

یرب: الیَربُوع جمع یَرابیع (ح) چوہے کے مانند ایک جانور جس کی اگلی ٹانگیں کوتاہ اور پچھلی بڑی اور دم دراز ہوتی ہے۔

یرج: الیارَج: کنگن (فارسی لفظ) الایارجۃ جمع ایاج (طب): ایک دست آور معجون (فارسی لفظ)

یرع: یَرِعَ یَرَعُ یَرَعاً: بزدل ہونا۔ الیَرَع (ح): جنگلی گائیوں کے بچے۔ مچھر کی طرح کی ایک چیز جو چہرے کو ڈھانپتی ہے۔ بھنگا۔ الیَراع: بزدل، کمزور، عقل و رائے نہ رکھنے والا، نرکل، قلم، بانسری (ح): چھوٹی چھوٹی بھیڑ بکریاں وغیرہ، (ح): جگنو، بھنگا۔ الیَراعۃ: احمق، بزدل۔ الیَراع کا واحد مکھی، نرکل، بانسری، قلم، جھاڑی، (ح) شتر مرغ۔

یرق: یُرِقَ: یرقان زدہ ہونا۔ الیَرَقان والأَرَقان (یونانی لفظ): کھیتی کا ایک روگ (ح) ایک قسم کا کیڑا جو کھیتی کو خراب کرتا ہے۔ طب: یرقان، پیلیا (ایک مرض)۔ الیَرَقانۃ (ح): وہ شکل جو بعض حیوانات، حشرات الارض اور مچھلیوں کی بعض اقسام کی طرح اپنی پیدائش کے موقع پر اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ اسی مرحلہ پر بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ کیڑوں مکوڑوں کا پہلا روپ: لاروا (Larva)۔ المَیْرُوق والمَارُوق من الزروع والناس (طب): یرقان زدہ کھیتی یا انسان۔

یرقان: پودوں کی ایک بیماری، پھپھوندی یرقان: اسم جنس واحد یرقانۃ: (لاروا، کیڑوں مکوڑوں) کے پہلے روپ۔ یرقانُ الضفادع: مینڈک کے بچے۔ مَیْرُوق: پھپھوندی دار، پھپھوندی سے متاثر، یرقان زدہ۔

یرم: الیَرْمَع جمع یَرامِع: پھر کی سفید چمکنے والی کنکریاں۔

الیَرْمُوك: شمالی مغربی اردن میں دریائے یرموک۔

یرن: ا۔ الیَرُون: ہاتھی کا دماغ، جانور کا پسینہ۔ ۲۔ یَرِنَ یَرْناً یَرِنَأَ الشیئَ: کو مہندی سے رنگنا۔ الیُرَنَّاء والیُرَنَّا والیُرَنَّأ (ن): مہندی

یَزِیدِی: یزیدی، یزیدی فرقہ سے متعلق۔ الیزیدیۃ: یزیدیوں کا مذہب (کردستان کے) یزیدی یا شیطان کے پجاری۔

یَزْرَجَۃ: نجوم، جوتش

یَزْکِی جمع یَزَك: پہرہ دار، سنتری

یازُول: جنگلی لہسن کی ایک قسم

یسر: ا۔ یَسَرَ یَیْسِرُ یَسْراً و یَسَراً: نرم ہونا، مطیع ہونا۔ ۔۔ تِ المرأۃُ: عورت پر زچگی آسان ہونا۔ ۔۔ یَسَراً: جوا کھیلنا۔ ۔۔ القومُ الناقۃَ: لوگوں کا اونٹنی کے گوشت کے حصے کر کے آپس میں بانٹ لینا۔ یَسُرَ یَیْسُرُ یُسْراً و یَسَرَ یَیْسَرُ یَسَراً الامرُ: آسان ہونا۔ صفت: یَسِیر۔ یَسَّرَ الشیئَ لفلان: کے لئے کسی چیز کو آسان کرنا، سہل کرنا، کیلئے کسی چیز کا حصول آسان کرنا (اللہ تعالٰی کی طرف سے)۔ ۔۔ الرجلُ: آدمی کی اونٹنیوں اور بکریوں کا جننا آسان ہونا۔ ۔۔ ت الغنمُ: بکری کی نسل اور اس کا دودھ بڑھنا۔ یاسَرَ مُیاسَرَۃً: سے نرمی برتنا، سے سہولت کا برتاؤ کرنا۔ اَیْسَرَ اِیْساراً: مالدار ہونا، صفت مُوسِر جمع مَیاسِیر۔ ۔۔ الرجلَ: کے ساتھ مطالبہ میں آسانی برتنا۔ ۔۔ ت المرأۃُ: عورت پر زچگی آسان ہونا۔ تَیَسَّرَتِ البلادُ: ملک کا سرسبز ہونا۔ ۔۔ الامرُ: آسان ہونا۔ ۔۔ النھارُ: دن کا ٹھنڈا ہونا۔ ۔۔ للقتال: جنگ کے لئے تیار ہونا۔ تیاسَرَ: آپس میں آسانی برتنا۔ ۔۔ واتَّسَرَ و ایسر القوم: جوئے کے ذبیحہ کے گوشت کو آپس میں تقسیم کرنا۔ کہا جاتا ہے تَیاسَرَتِ الأَھواءُ قلبَہٗ: خواہشات نے اس کے دل کو سخت کوفت پہنچائی۔ اِسْتَیْسَرَ لہُ الأمرُ: کے لئے کام تیار ہونا۔ ۔۔ الامرُ: کام آسان ہونا۔ الیاسِر (فا) ج اَیْسار: سہل، آسان، جوئے کے ذبیحہ کے گوشت کی تقسیم کا انتظام کرنے والا، قصاب۔ الیُسر (ن): ایک درخت جس کے بیج نہایت سیاہ اور خوشبودار ہوتے

ہیں اور کھیلنے کیلئے دھاگے میں پروئے جاتے ہیں۔ ــــ والیُسْرو الیَسَارَۃ: سہولت، آسانی، آسودگی، خوشحالی الیَسَر (مص) جمع اَیْسَار: آسان، جوا کھیلنے والوں کی جماعت۔ تیار کردہ، تیار شدہ، مہیا شدہ الیَسَرَۃ جمع اَیْسَار و یَسَرات: ہاتھ کے غیر متصل خطوط، دونوں رانوں کے داغ، الیَسَرات ہلکی ٹانگیں۔ الیَسَار: آسانی، سہولت، تونگری، الیَسِیر آسان۔ و الیَسُور جمع یُسُر: غالب، جوئے میں شکست دینے والا۔ الأَیْسَر: زیادہ آسان، زیادہ سہل۔ المَیْسِر: جوا (ہر قسم کا)، تیروں کا جواء۔ وہ ذبح شدہ جانور جن پر جوا کھیلا جاتا تھا۔ اونٹ ذبح کر کے اس کے دس یا اٹھائیس حصے کر لیتے۔ پھر تیروں سے قرعہ ڈالتے جس کے نام پر بے نشان کا تیر نکلتا اس کو ذبح شدہ اونٹ کی تمام قیمت دینی پڑتی۔ جس کا تیر جیتتا وہ ذبح شدہ جانور سے اپنا حصہ لے لیتا تھا۔ المَیْسَرَۃ والمَیْسُرَۃ: سہولت، آسانی، تونگری، خوشحالی، آسودگی المَیْسُور جمع مَیَاسِیر: کامیابی سے کیا ہوا کام، آسان۔

۲۔ یَسَرَ یَیْسِرُ یَسْراً الرجُلَ: کے پاس بائیں طرف سے آنا۔ یَاسَرَ مُیَاسَرۃً: کے بائیں طرف سے اس کے پاس آنا۔ ــ الشیَٔ کو بائیں طرف لینا ــ بالقوم: کے بائیں طرف رہنا۔ تَیَاسَرَ الرجُلُ: بائیں جانب اختیار کرنا۔ ــــ القومَ: کے بائیں طرف رہنا۔ الیَاسِر جمع اَیْسَار: بایاں۔ رجُلٌ اَسَرُ یَسَرُ: دونوں ہاتھوں سے کام کرنے والا عَسْراء یَسْرَاء: دونوں ہاتھوں سے کام کرنے والی۔ الیسار و الیَسَار جمع یُسُرو یُسْر: بایاں۔ الیَسْرَۃ: بایاں۔ الیُسْرَی جمع یُسْرَیات: بایاں۔ الأَیْسَر: بائیں جانب والا۔ المَیْسَرَۃ جمع مَیَاسِر: بائیں جانب۔ فوج کا بایاں بازو۔

۳۔ یَسُرَ یَیْسُرُ یُسْرًا: تھوڑا ہونا صفت: یَسِیْر الیَسِیر: تھوڑا۔

○ یَسِرَ ـَ یَسَراً آسان ہونا یا ہو جانا۔ یَسُرَ ـُ یُسْراً: چھوٹا، تھوڑا یا غیر اہم ہونا۔ آسان ہونا یا ہو جانا۔ یَسَّرَ علی ہ: کے لئے کچھ ہموار کرنا، برابر کرنا، (راستہ) صاف کرنا (راہ) آسان کرنا، تیار کرنا، کیلئے کچھ آسان کرنا، ڈھیلا کرنا، کی شدت کم کرنا۔ یَسَّرَ السبیلَ امامَہُ لِ: کیلئے راستہ ہموار کرنا کہ وہ......کو کے قابل بنانا۔ یَاسَرَہ: کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، کے ساتھ بہت مہربان، شفیق یا مشفق ہونا کے ساتھ با مروت یا با اخلاق ہونا یا نرم ہونا، کو خوش کرنا، کی بات ماننا، اَیْسَرَ: آسودہ، حال میں رہنا، دولتمند ہونا یا ہو جانا، خوش قسمت ہونا، خوش بخت ہو، عورت کی زچگی کا آسان ہونا، تَیَسَّرَ: آسان ہو جانا، آسان بنا دیا جانا، آسان کیا جانا، کامیاب ہونا، آخر کار کامیاب ہونا، پھلنا پھولنا، پنپنا، ترقی کرنا، فروغ پانا، سرسبز ہونا، بار آور ہونا، خوش و خرم ہونا۔ ل: کے لئے ممکن بنا دیا جانا، کے لئے ممکن ہونا اِسْتَیْسَرَ: آسان ہونا، کامیاب ہونا، بہرہ مند ہونا، یُسْر: راحت، آرام، چین، سکھ، آسودگی، آسائش، سہولت، آسانی، ملائمت، آسان اور خوشگوار حالات، اقبال مندی، کامیابی، بہبودی، فلاح، دولتمندی، مرفہ الحالی، تونگری، دولت کی بہتات، کثرت، افراط، وفور، نفس پرستی، عیش و عشرت، ناز و نعمت، عیش پسندی، تعیش۔ یَسْرَۃ بائیں جانب۔ یَسَار: راحت، آرام، چین، سکھ، آسودگی، آسائش، سہولت، اقبال مندی، کامیابی، بہبود، فلاح، دولتمندی، مرفہ الحالی، تونگری، دولت کی بہتات، کثرت، افراط، وفور، عیش و عشرت، ناز و نعمت، عیش پسندی، تعیش، ہاتھ، بایاں جانب، یساراً یـا عـن الیسار: بائیں طرف (کو)۔ یَسَارِی: بائیں بازو والا، اشتراکی، انقلابی، بایاں بازو، یُسْرَی جمع یُسْرَیات: بائیں جانب الیُسْرَی: بایاں ہاتھ، یَسِیر: تھوڑا، تھوڑا سا، چھوٹا، معمولی، غیر اہم، تھوڑا (وقت)، سادہ، غیر پیچیدہ، سیدھا سادہ، صاف، واضح، ــ علی: کے لئے آسان۔ اَیْسَر: زیادہ آسان، زیادہ چھوٹا، زیادہ کم، زیادہ معمولی یا غیر اہم، زیادہ کامیاب، زیادہ بامراد، زیادہ کامران، زیادہ اقبال مند، زیادہ سرسبز، زیادہ موافق، زیادہ دولتمند، بایاں، کھبا، بائیں ہاتھ کا، بائیں جانب کا، مَیْسِر: تیروں سے کھیلا جانے والا جوا، جس کی قرآن حکیم نے ممانعت کر دی۔ مَیْسَرَۃ جمع مَیَاسِر: بائیں جانب، فوج کا بایاں پہلو، مَیْسَرَۃ و مَیْسُرَۃ: راحت، آرام، چین، سکھ، اقبال مندی، بہتات، دولت، افراط، کثرت، تونگری، مرفہ الحال، دولتمندی، تعیش، ناز و نعمت، عیش پسندی۔ تَیْسِیر: آسانی، سہولت، جمع تَیْسِیرات۔ مَیْسُور جمع مَیَاسِیر: آسانی سے کیا ہوا، آسان دسترس یا پہنچ میں، تعمیل کرنے میں آسان، کسی مشکل کے بغیر قابل عمل، آسان، کامیاب، خوش قسمت، بامراد، اقبال مند، سرسبز، ہرا بھرا، مبارک، خوشحال، دولتمند۔ مُیَسَّر: آسان بنایا ہوا، آسان رسائی یا دسترس میں، کامیاب، خوش قسمت، اقبال مند، بامراد، خوش حال، دولتمند امیر۔ مُوسِر جمع مُوسِرُون و مَیَاسِیر: اقبال مند، بامراد، خوش حال امیر۔ مُتَیَسِّر: آسان بنایا ہوا، آسان، آسان رسائی یا دسترس میں، دستیاب، موجود، ہموار اور کامیاب راہ پر گامزن، روانی سے رواں، کامیاب، خوش قسمت، بامراد، اقبال مند، خوش حال مُتَیَسِّرُ الحال: خوش حال، آسان حالات میں۔

○ یَسَقْجِی: مسلح مصاحب، قفل کا محافظ۔

یسم: الیَاسَمُون (ن): یاسمین، چنبیلی، الیاسمین: چنبیلی۔

یسن: یَسِنَ یَیْسَنُ یَسَنًا الماءُ: پانی متغیر ہونا، کھاری ہونا۔

یشب: الیَشْب والیَشْف والیَشْم: سنگ یشب زبرجد جیسا ایک قیمتی پتھر جو زبرجد سے زیادہ شفاف ہوتا ہے (عبرانی یا فارسی لفظ)

○ یَشْمَق و یَشمك: (ترکی لفظ) عورتوں کا چہرے کا نقاب۔

یصب: الیَصْب والیَصْف: بمعنی الیَشْب۔ سنگ یشب یا نیلم۔

یصر: الأَیْصَر جمع اَیَاصِر: سوکھی گھاس۔

○ یَعْبُوبُ: تند و پر شور دریا۔

یعر: یَعَرَ یَیْعِرُ و یَیْعَرُ یُعَاراً تِ الشاۃ او المعزی: بکری کا ممیانا۔ الیَعْر والیَعْرَۃ جمع یِعَار (ح) بکری کا بچہ جس کو شیر یا بھیڑیے کے شکار کے لئے گڑھے کے پاس باندھتے ہیں۔

یعس: الیَعْسُوب (ح): شہد کی نر مکھی۔

یعف: الیَعْفُور (ح): ہرن۔

○ یَعْقُوب: حضرت یعقوب علیہ السلام

یغر: الیَغُر (ح): کتے سے چھوٹا بلی سے بڑا ایک جانور جسے الغُرَیر بھی کہتے ہیں۔

یفخ: یَفَخَ یَیْفَخُ یَفْخًا الولدَ: لڑکے کی چندیا پر مارنا الیافوخ یا الیَأْفُوخ جمع یَوَافِیخ: بچہ کا تالو جو حرکت کرتا ہے۔ صَدَعَ القومُ یافوخ اللیل: جب لوگ رات کی تاریکی میں چلیں تو یہ بات کہی جاتی ہے۔ مَسَّ بیافوخہ السِّمَاكَ: یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی تکبر کرے۔ وطِئَ فلانٌ یوافیخ القُرُوم: جب کسی شخص کو سربراہی سپرد کی اے تو اس وقت کہا جاتا ہے۔

○ یَـفْـطَۃ (یـافِطَۃ): سائن، سائن بورڈ، نام کی تختی، دروازہ کی پلیٹ، سجاوٹی یا زیبائشی تختی، آرائشی لوح۔

یفع: یَفَعَ یَیْفَعُ یَفْعًا و اَیْفَعَ الغلامُ: لڑکے کا بڑھنا اور بلوغت کو پہنچنا۔ ــــ الجبلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔ تَیَفَّعَ الغلامُ: لڑکے کا بڑھنا اور بلوغت کو پہنچنا۔ ــ الرجُلَ:

اونچے ٹیلے پر چڑھنا، اونچے ٹیلے پر آگ جلانا۔
اليافع جمع يفعة و يفعان (فا) ۔ غلامٌ يافعٌ: نوجوان لڑکا۔ مجدٌ يافعٌ: بلندشان۔ اليافعة جمع يافعات: يافع کا مونث، نوجوان لڑکی۔ اليافعاتُ من الامور: طاقت سے بالاتر کام۔
اليافعات من الجبال: بلند پہاڑ۔ اليفع و اليفاع جمع يفوع: اونچا ٹیلہ، بلندزمین۔ غلامٌ يفعٌ جمع ايفاع: نوجوان لڑکا۔ اليفعة: نوجوان جو بلوغت کے قریب پہنچے۔ (واحد تثنیہ وجمع یکساں) جیسے غلامٌ يفعةٌ و غلامان يفعةٌ و غلمانٌ يفعةٌ۔ الميفعة جمع ميافع: بلندزمین۔

ض يفع ـ يفعا: نوبلوغت کو پہنچنا، سن بلوغ میں ہونا۔ ايفع و تيفع: بمعنی يفع۔ يفع: سن بلوغت، نوبلوغت، يفع: پہاڑی، میدان، پہاڑی علاقہ، جمع ايفاع: بالغ عمر لڑکا، نوجوان، نئی جوانی والا۔ نوخیز۔ يفاع: پہاڑی۔ يافع: بالغ عمر لڑکا، نوجوان، نوخیز۔

يفن: اليفن جمع يفن: پیرفرتوت، بوڑھا بیل، گونا گوں صنعت والا۔

يق: يقّ يقّ يقوقةً: سفید ہونا اليقق (ٹکڑا يققة) روئی، کپاس، کھجور کے اندر کا سفید گودا، کہا جاتا ہے: ابيضُ يققٌ و يقِقٌ جمع يقائق: بہت سفید۔

يقت: الياقوت واحد ياقوة جمع يواقيت: یاقوت، ایک قیمتی پتھر (یونانی لفظ)

يقط: اليقطين: واحد يقطينه (ن): بیل عموماً زیادہ تر کدو کے لئے مستعمل ہے۔

يقظ: يقِظ ييقظ يقظًا و يقظ ييقظ يقاظةً: جاگنا، محتاط ہونا، چوکنا ہونا، سمجھدار ہونا، صفت: يقظ و يقُظ و يقظان جمع ايقاظ مونث يقظى جمع يقاظى۔ يقّظ تيقيظًا الغبارَ: غبار اٹھانا۔ ايقظ ايقاظًا فلانًا: کو بیدار کرنا۔ جگانا ـــ الغبارَ: غبار اٹھانا، تيقّظ تيقّظًا: بیدار ہونا۔ کہا جاتا ہے: تيقّظ للامر: وہ کام کے بارے میں محتاط اور چوکنا ہو گیا۔ استيقظ استيقاظًا: بیدار ہونا ـــ ہٗ: کو بیدار کرنا، نیند سے جگانا۔ اليقظة: بیداری ابو اليقظان (ح): مرغ

ض يقّظ و ايقظ ہٗ: کو ابھارنا، ہوشیار کرنا، کا باعث بننا ـــ ہٗ: کو خبردار کرنا، متنبہ کرنا، آگاہ کرنا، جگانا، ہوشیار کرنا، چوکنا کرنا، چوکس کرنا تيقّظ: بیدار ہونا، چوکنا ہونا، چوکس ہونا، ہوشیار ہونا استيقظ على: سے جاگ جانا، سے نیند سے بیدار ہو جانا ـــ: خود کو جگانا، بیدار ہونا، ہوشیار ہونا، چوکنا ہونا، چوکس ہونا۔ يقظ و

يقظ جمع ايقاظ: بیدار، چوکس، چوکنا ہوشیار محتاط، يقْظة و يقَظة: جاگنا، بیداری، چوکسی، بے خوابی، شب بیداری کا مرض، خبرداری، ہوشیاری، بیدار مغزی، احتیاط، چستی، مستعدی، ذہانت، ذہن کی تیزی يقظان مونث يقظى جمع يقاظى: بیدار، متوجہ، چوکس، چوکنا، ہوشیار، خبردار محتاط۔

يقن: يقِن ييقن يقنًا و يقنًا الامرُ: روشن وثابت ہونا صفت يقين۔ ـــ و ايقن و تيقّن و استيقن الامرَ و به: کو جاننا، پر یقین کرنا اليقن: شک کا ازالہ، ہر سنی ہوئی بات پر یقین کر لینے والا۔ اليقِن: ہر سنی ہوئی بات پر یقین کرنے والا۔ رجلٌ يقِنٌ بالشيء: کسی شے پر فریفتہ آدمی۔ اليقْن و اليقنة و الميقان مونث ميقانة: ہر سنی ہوئی بات پر یقین کر لینے والا۔ اليقين: شک کا ازالہ، یقینی بات، دیکھنے اور دلائل سے حاصل ہونے والا علم۔ (کہا جاتا ہے: انا على يقينٍ منه: مجھے اس کا پورا پورا یقین ہے) حق اليقين: واضح اور خالص یقین: امرٌ يقينٌ: سچا واضح امر۔

ن يقن ـ يقنًا و يقنًا: یقین رکھنے والا ہونا، پر یقین ہونا، غیر متذبذب ہونا۔ ہ باب: کو بے شک اور یقینا جاننا، کے متعلق پر یقین ہونا، خود اعتمادی والا ہونا کا یقین کرنا، باور کرنا، ماننا۔ ايقن و تيقّن و استيقن ہ باب: کو جانچنا، معلوم کرنا، کی تحقیق کرنا، کا پتہ چلانا، کے بارے میں اپنی تسلی کرنا۔ کو بلا شبہ و شک جاننا، معلوم کرنا، کے بارے میں پر یقین ہونا، قائل ہونا، کو ماننا۔ يقْن و يقَن: ایقان، یقین یقینی امر، تحقق، تیقن۔ يقِن و يقُن و يقِن و يقنة: خوش اعتقاد، ضعیف الاعتقاد، بھولا، صاف، بے تصنع، شبہ نہ کرنے والا اليقينُ ب: کے بارے میں تیقن، کا پختہ یقین۔ يقينًا: یقینا، بے شک، لازماً، وثوق سے انا على يقينٍ من انّ یا انا على يقين انّ: مجھے پورا یقین ہے کہ، میں مان گیا کہ، میں پر یقین ہوں کہ كونوا على يقين: آپ لوگ یقین رکھ سکتے ہیں۔ يقيني: قطعی، یقینی، حتمی، صریحی، صریح، مثبت، ایجابی، ٹھوس، ناقابل تردید، معین طور، مسلم ميقان: ضعیف الاعتقاد، خوش اعتقاد، شبہ نہ کرنے والا۔ موقنٌ ب: کا قائل، کو ماننے والا، پر یقین رکھنے والا، کے بارے میں پر یقین۔

يلث: اليلثة (ن) ایک قسم کا پودا جس کے پتے تلوار جیسے ہوتے ہیں پھول سفید اور گلابی رنگ کے اور آرائش کے لئے اگایا جاتا ہے۔

يل: يلّ و يلِل و ييلّ و يللًا: چھوٹے یا ہموار اور اندر کی جانب گھسے ہوئے دانتوں والا ہونا صفت ايلّ مونث يلّاء جمع يُلّ

يلب: اليلب: چمڑا، چمڑے کی ڈھال یا چمڑے کی یمنی زرہیں، چمڑے کی ٹوپیاں (واحد يلبة) فولاد، خالص لوہا، ہر بڑی چیز

يلق: ا۔ اليلق: سفید، کہا جاتا ابيض يلق و لهق و يقق: ان سب کا ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے: بہت سفید۔ اليلقة او اليلق (ح) سفید بکری ۲۔ اليلمق جمع يلامق: قبا (فارسی لفظ)

يلن: اليلنجج و الالنجج و اليلنجوج و الالنجوج: صندل کی لکڑی

يم: ا۔ يُمّ يُمّ يمًّا: سمندر میں پھینکا جانا۔ ـــ الساحلُ: ساحل کا سمندر کے نیچے آنا۔ اليمّ: سمندر

۲۔ يمّمه: کا قصد کرنا ـــ فلانًا برمحه: کسی کو خاص طور پر نیزے کا نشانہ بنانا ـــ المريضَ للصلاة: مریض کو نماز کے لئے تیمم کرانا۔ يمّم الامرَ: کا ارادہ کرنا، کو ارادتا کرنا ـــ للصلاة: نماز کے لئے ہاتھ منہ پر مٹی سے مسح کرنا۔ اليمام و اليمامة: قصد، ارادہ، کہا جاتا ہے امض يمامتي: میرے آگے چل۔ الميمّم: مطالب میں کامیاب۔

۳۔ اليمّ (ح): سانپ ـــ و اليمم و اليمام (ح): جنگلی کبوتر، اليمامة (ح) جنگلی فاختہ۔

يمّم ہ یا صوب یا نحو یا شطر: جانا کسی جگہ یا اس کی طرف، کا رخ کرنا، کی راہ لینا، کی طرف بڑھنا۔ ـــ ہ: کو چلانا، موڑنا، يمّم في فم البركان: شیر کی مانند میں جا گھسنا يمّم وجهه شطر: کی طرف چہرہ یا رخ کرنا تيمّم ہ: (کسی جگہ) جانا، کی طرف بڑھنا، کی طرف جانا، کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، سے مراد ہونا۔ يمّ جمع يموم: کھلا سمندر، پہلو، جانب يمن يمّي میری جانب سے، میری طرف سے، يمام اسم جنس واحد يمامه جمع يمامات و يمائم: کبوتر، قمری، فاختہ۔

يمن: يمَن ييمن يمنًا الرجلَ: کے دائیں طرف سے آنا، کی سیدھی جانب سے آنا۔ يُمنًا و ميمنةً لقومه و على قومه: کے لئے بابرکت ہونا، صفت: يامِن و يمين و ايمن و ميمون۔ يمُن و يمِن يمنًا به: کو دائیں طرف لیجانا۔ يمَن يمنًا و يُمنًا اللّٰهُ فلانًا: اللہ کا کسی کو مبارک بنانا۔ ایسا شخص میمون اور اللہ تعالی، يامِن و يمين (جیسے قادر و قدیر میں) ہوگا)۔ يمن ييمن يمنًا الرجلَ: کے

دائیں طرف سے آنا۔ یَمَنَ ویَامَنَ ویَمَّنَ یَمُنَ ویُمِنَ یُمْنًا و مَیْمَنَةً لقومه و علی قومه: کے لئے مبارک ہونا صفت یَامِن و یَمِین و أَیْمَن ومَیْمُون: یَمَّنَ: دائیں طرف جانا، ملک یمن کی طرف جانا، ملک یمن میں جانا۔ ــ به: کو دائیں طرف لیجانا۔ ــ علیه: کو برکت دینا۔ یَامَنَ یُیَامِنُ مُیَامَنَةً: دائیں طرف جانا، ملک یمن کی طرف جانا، ملک یمن میں جانا۔ ــ به: کو دائیں طرف لیجانا۔ أَیْمَنَ و تَیَامَنَ: دائیں طرف جانا، ملک یمن کی طرف جانا، یا ملک یمن میں آنا۔ تَیَمَّنَ: یمن کی طرف منسوب ہونا۔ ــــ الرجلُ: آدمی کا مرجانا۔ دائیں ہاتھ یا پاؤں سے کام یا حرکتیں شروع کرنا۔ بکذا: سے برکت لینا، نیک فال لینا۔ ــ بالمیّت: میت کو قبر میں دائیں پہلو رکھنا اِسْتَیْمَنَ اِسْتِیْمَانًا الرجلَ: کو قسم دلانا۔ بکذا: سے برکت حاصل کرنا۔ الیَامِن مونث یَامِنَة: برکت والا۔ الیُمْن: برکت الیَمَن: دائیں جانب۔ ملک یمن۔ الیَمَنِی و الیَمَانِی جمع یَمَنِیُّون ویَمانُون و یَمَانِیُّون: یمن کا، یمنی، ملک یمن کا باشندہ۔ الیُمْنَةَ: دائیں جانب۔ ــ و الیُمْنَةَ: یمنی چادر۔ الأَیْمَن م یَمْنَاء۔ جمع یُمْن و ایَامِن: دایاں پہلو یا عضو۔ کہا جاتا ہے: ذهب إلی ایمن الإبل: وہ اونٹوں کے دائیں طرف سے گیا۔ نظر ایْمَنَ منه: اس نے دائیں طرف سے دیکھا الیُمْنَی تثنیة یُمْنَیَان جمع یُمْنَیَات: دائیں طرف، دایاں عضو۔ التَیَمَّن: جنوب الیَمِین جمع اَیْمَان: برکت، قوت۔ کہا جاتا ہے: فلانٌ عندنا بالیمین: فلاں شخص ہمارے ہاں اچھے مرتبہ والا ہے۔ قدم علی أیمنِ الیَمِینِ: وہ خوش قسمتی اور برکت لئے آیا۔ جمع ایْمُن و ایمان: قسم (مونث)۔ ایْمُنُ اللّٰهِ: اللہ کی قسم (تقدیر کلام اسی طور پر ہے: ایْمُنُ اللّٰه قسمی) اس میں بہت سی لغات ہیں۔ اور اس کی ہم معنی ہیں۔ جیسے: اَیْمُنُ اللّٰهِ و اِیمُنُ اللّٰه و ایْمَنُ اللّٰه و أَیمنُ اللّٰهِ نیز ایْمُ اللّٰه و اِیمِ اللّٰه و اُمِّ اللّٰه (میم کی تثلیث سے) ومن اللّٰه میم اور نون کی تثلیث کے ساتھ) و م اللّٰه (میم کی تثلیث سے)۔ یہ بھی کہا جاتا ہے یمینُ اللّٰه لا افعل (خدا کی قسم میں نہیں کرتا) ــــ ج ایْمُن و ایْمان و ایَامِن و ایَامین: دائیں طرف۔ دایاں عضو۔ اس کی تصغیر یُمَیْن (ہاء کے بغیر) جمع یَمانِ۔ المَیْمَنَةَ جمع مَیَامِن: برکت، لشکر کا دایاں بازو۔ المُیَمَّن: برکت لانے والا المَیْمُون جمع مَیَامِین: مبارک۔ کہا جاتا ہے: هو مَیْمُونُ الطائِرِ: وہ مبارک چہرے والا ہے۔ سِرْ علی الطائِرِ المیمونِ: تم توفیق کے ساتھ سفر کرو (مسافر کیلئے دعا ہے)۔

○ یَمَنَ ـُ و یَمِنَ ـَ ویَمُنَ ـُ یُمْنًا و مَیْمَنَةً: خوش نصیب، مبارک، خوش قسمت یا مسعود ہونا۔ یَمَّنَ: دائیں طرف جانا۔ تَیَمَّنَ بـ: میں اچھا شگون دیکھنا، اِسْتَیْمَنَ بـ: میں اچھا شگون دیکھنا۔ یُمْن: اچھی قسمت، خوش نصیبی، خوش قسمتی، اقبال مندی، کامیابی، یَمْن ویَمْنَة: دائیں طرف، دایاں ہاتھ۔ یَمْنًا دائیں طرف، دائیں جانب، دائیں ہاتھ۔ یَمْنَةً بمعنی یَمْنًا۔ شامًا ویمنًا: شمال یا جنوب کی طرف۔ یَمْنَةً ویَسْرَةً: دائیں اور بائیں الیمن: ملک یمن۔ یمنی: ملک یمن کا، یمنی (باشندہ) یَمِین (مونث) جمع ایْمَان: دائیں جانب، دائیں ہاتھ یَمِینًا یا من الیمین: دائیں طرف، دائیں ہاتھ۔ یَمِینًا و شمالا: دائیں اور بائیں۔ ما ملکت (تملك) یمینهُ: کسی جائیداد، یَمِین (مونث) جمع ایْمُن و ایْمان: قسم۔ یمین الامانة: اطاعت و فرمانبرداری کی قسم۔ یمین الصبر: جھوٹا حلف یمین قانونية: عہدہ کا حلف۔ سرکاری حلف۔ یمین کاذبة: جھوٹا حلف۔ یمینُ الوَلاءِ و الاخلاص: حلف وفاداری۔ ایْمُنُ اللّٰهِ و ایْمُ اللّٰهِ: میں خدا کی قسم کھاتا ہوں۔ یَمِینِی: دایاں، دائیں جانب یا دائیں ہاتھ کا الیَمِینِیُّون: دائیں بازو کی پارٹیاں۔ یُمْنَی جمع یُمْنَیَات: دایاں ہاتھ۔ دائیں جانب۔ ایْمَن مونث یُمْنَی: دائیں ہاتھ، دایاں، دائیں طرف، خوش نصیب۔ مَیْمَنَة جمع مَیَامِن: دائیں جانب (فوج یا لشکر کا) دایاں بازو۔ تَیَمُّن: برکت، نیک شگون، نیک فال۔ مَیْمُون جمع مَیَامِین: خوش نصیب، خوش قسمت، خوش بخت، مبارک، بندر، مَیْمُونُ الطائِرِ: مبارک، آسودہ، خوشحال، مناسب حال، امیدافزا۔ علی الطائِرِ المیمون: کامیاب سفر، خداحافظ۔ مُیَمَّن: خوش نصیب، مبارک

○ یَنَایِر و یَنَایَر: جنوری (سال کے پہلے مہینہ کا نام)۔

ینب: ۱۔ الیَنْبُوت (ن): ایک پودا جس کی لکڑی سخت ہوتی ہے۔ ایک پودا کپاس کی قسم کا۔
۲۔ الیَنْبُوع: چشمہ (پانی کا)

ینس: الیَانِسُون (ن): ایک قسم کی خوشبودار نباتات۔ بادیان، سونف۔

ینع: یَنَعَ یَیْنَعُ و یَیْنِعُ یَنْعًا ویُنْعًا و یُنُوعًا الثمرُ: پھل کا پکنا۔ صفت یَانِع جمع یُنْع ویَنِیع: ــ الشیُٔ: چیز کا بہت سرخ ہونا اَیْنَعَ الثمرُ: پھل کا پکنا۔ الیَانِع: ہر سرخ چیز الیَنَعُ واحد یَنَعَة: سرخ مہرے، عقیق کی ایک قسم۔ الیُنُوع: خون کی سرخی۔

○ یَنِیع: پکا ہوا، میٹھا، ملائم، نرم، رسیلا ایناع: (پھل کا) پکنا، نرم ملائم میٹھا اور رسیلا ہونا یانع: پکا، میٹھا، رسیلا، نرم اور ملائم۔

ینم: الیَنَمُ: واحد یَنَمة (ن): ایک قسم کی نباتات

یهت: ایْهَتَ اِیهَاتًا اللحمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔

یهر: ۱۔ اِسْتَیْهَرَ: بے عقل ہونا۔ ــ فی الامر: کو جاری رکھنا، کی انتہا تک جانا۔ الیُهْر و الیَهَر: کشادہ جگہ، کسی امر کو جاری رکھنا، کی انتہا تک پہنچنا۔
الیَهْیَرُ: لجاجت، سخت پتھر۔
الیَهْیَرّی: بہت پانی، المُسْتَیْهِر (فا) بہت لجاجت کرنے والا۔
۲۔ اِسْتَیْهَرَ بالأمر: پر یقین کرنا۔
۳۔ الیَهْیَرّ: سراب، جھوٹ (ن): انلرائن۔ زہر۔ الیَهْیَرّی: باطل۔

یهف: الیَهْفُوف: بزدل، احمق، چٹیل زمین، ہوشیار و بیداردل۔

یهم: الیَهْم: جنون۔ الأَیْهَم مونث یَهْمَاء جمع یُهْم: پاگل، خشکی، بلند پہاڑ، بہرا، دلیر و بہادر آدمی، چکنا پتھر، بے نشان شہر۔ لیلٌ ایْهَمُ بے تاروں کی رات الیَهْمَاء: الایہم کا مونث: بے آب اور بے نشان راہ بیابان، سخت تنگی کا سال، مضبوط اونٹنی۔ ارض یَهْمَاء: بے اثر و نشان اور بے چراگاہ زمین۔ سنون یُهْمٌ: بے آب وگیاہ سال۔

یهو: یَهُود: دیکھئے مادہ ہود۔

○ یُوبِیل: یہودیوں کا جشن آزادی، پچاسویں سال کا جشن، پچاسویں سالگرہ، مسرت اور جشن کا سال (Jubilee)

یوح: یُوح و یُوحَی: سورج۔ کہا جاتا ہے: جعلك اللّٰه اعمر من نوح و انور من یُوح تجھے اللہ تعالیٰ حضرت نوحؑ سے زیادہ عمر دے اور سورج سے زیادہ روشن کرے۔

○ یُوحَنّا: انگریزی کا اسم معرفہ (john) ○ یوحنا الصابغ: بپتسمہ دینے والا یوحنا۔

یود: الیود (ك): آیوڈین (iodine) بنفشین، یُورَانِیُوم: یورانیم (Uranium)

○ یوزُباشی جمع یوزباشیه: کیپٹن، بیٹری کمانڈر، (بحری) لیفٹیننٹ (lieutenent)

یوسف: یوسفُ۔ یوسف آفندی (اسم جنس):

چھوٹے سنترے (جو طنجہ میں پیدا ہوتے ہیں)
یُوسُفی: چھوٹے سنترے۔

○ یُوطَنَة: لیفٹیننٹ Lieutenant

○ یُوغُسلاوِیَا: یوغوسلاویا Yusoslavia (ایک ملک کا نام) یُوغُسلافِی: یوغوسلاوی، یوغوسلاویا کا (باشندہ)۔

○ یُولِیُو و یُولِیَه: جولائی (ایک مہینے کا انگریزی نام)

یوم: یَاوَمَ یُوَامًا و مُیَاوَمَةً: کو دنوں کی مزدوری پر رکھنا الیَوْم جمع اَیَّام وجج اَیَاوِیْم: فجر سے غروب آفتاب تک کا وقت۔ مطلق وقت۔ کہتے ہیں ذخرتك لِهذا الیوم: میں نے تم کو اس وقت کے لئے ذخیرہ بنایا تھا۔ النجمیّ (فلك): خط نصف النہار میں ربع کے نقطہ اعتدال کے دوبارہ لگاتار گزرنے کے درمیان کا وقت۔ الیوم الشمسی الحقیقی: حقیقی شمسی دن۔ اَیَّامُ اللّٰهِ: خدا اللہ کے دن یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی سزائیں۔ اَیَّامُ العَرَب: عربوں کی جنگیں اِبنُ الایام: زمانہ شناس اِبنُ الیوم: زمانہ ساز یَوْمٌ اَیْوَم: مہینہ کا آخری دن۔ یَوْمٌ اَیْوَمُ و یَوِم و وَوِم و ذو اَیَّام و ذوا ایاویم و ذوا ایایم: مصیبت کا لمبا دن۔

○ یَوْم جمع اَیَّام: دن۔ زمانہ، وقت، دور اَلیَوْمَ: آج۔ یَوْمَ: اس دن جب۔ اَیَّامَ: کے دنوں میں، دوران اَیَّامًا: چند روز تک، چند روز کے لئے۔ اَیَّامَهُ: (اس کی) عمر بھر، اس کی زندگی۔

یَوْمَهَا: تب، اس وقت، اس دن، یَوْمًا یا یومًا ما: کسی دن، کسی وقت، ان دنوں میں سے ایک دن۔ ذاتَ یومٍ: ایک دن، ایک دفعہ یومًا یومًا یا یوماً فیوماً یا یوماً بعد یومٍ یا یوماً عن یومٍ: دن بدن، روز بروز، روزانہ، بعد الیوم آج کے بعد، آئندہ، آج سے۔ فی یومٍ ولَیْلَةٍ: ایک سے دوسرے دن تک، رات کی رات، ایک رات پہلے۔ راتوں رات، رات بھر میں، اگلی رات میں۔ کُلَّ یوم روزانہ، ہر روز، مِن یومٍ اِلی یومٍ یا مِن یومٍ لیوم: ایک سے دوسرے دن تک روز بروز، روزانہ۔ مِن یومِهِ: اس وقت سے آئندہ، آج سے، اب سے، آج کے بعد۔ مِن ایام: چند روز قبل، گزشتہ چند روز۔ ذٰلِكَ بِاَیَّامٍ: اس کے چند دن بعد یوم الاحد: اتوار۔ یومُ الاثنین: پیر۔ یومُ الثلاثاء منگل یومُ الاربعاء: بدھ یوم الخمیس: جمعرات یوم الجمعہ: جمعہ یوم السبت: ہفتہ۔ یومٌ اَسْوَدُ: منحوس دن۔ یومُ الاشتغال: کام کا دن۔ یَوْمٌ اَیْوَم: برا دن۔ یومُ الدِّیْن: فیصلہ کا دن۔ یوم جزاء یومُ راس السنة: نئے سال کا دن یومُ عُطْلَةٍ چھٹی کا دن۔ فارغ دن۔ ابنُ الیوم: آج کا آدمی، نیا آدمی، ابنُ الاَیَّام: دنیادار، تجربہ کار، تصنع والا، علی توالی الایام: وقت کے دوران وقت پر۔ یَوْمَئِذٍ: اس دن، اس وقت۔

یومـه: ایک دن کا، مختصر، عارضی، آنی جانی، دم بھر کا، یک روزہ، چند روزہ، سریع الزوال۔

یَوْمَذاك: اس دن، تب: یَوْمِی: روز، ہر روز، روزانہ یومِیًّا: روزانہ، ہر روز یومیات: ہر روز کے واقعات، وقائع، تاریخ، روزانہ خبریں، جریدة یومیة: روزانہ اخبار۔ یَوْمِیَة: روزانہ دیہاڑی، ایک دن کی مزدوری، روزانہ راشن، ایک دن کا کام، روزانہ کام، ڈائری، جرنل، بہی، روزنامچہ، کیلنڈر (Calendar)۔ مُیَاوَمَةٌ: دن کے حساب سے کام، دن کی مزدوری۔ مُیَاوَمَةً: روزانہ، دن کے حساب سے، عامل معاومة: دیہاڑی کا مزدور۔

یون: الیونان: یونانی لوگ۔ (واحد یونانی جمع یُونَانِیُون) ملک یونان۔

○ یونس: حضرت یونس علیہ السلام۔

○ الیونسکو: هیئةُ الیونسکو: UNESCO اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور کلچرل تنظیم۔

یُونِیُو و یُونِیَة: جون (انگریزی مہینہ)

یوی: الیاوی: یاء کا، یاء سے منسوب

یین: الیَیْنِیَّة: خود

ییی: یَیَّا تَیْیِیَةً الیاءَ: حرف یاء لکھنا۔

عربوں کے ادبی جواہر پارے، جوان کی ضرب الامثال، محاورات اور حکیمانہ اقوال پر مشتمل ہیں

❁ إبلی لَمْ أبِعْ وَلَمْ أهَبْ: یہ میرے اونٹ ہیں، میں نے انہیں نہ تو کسی کے ہاتھ بیچا ہے اور نہ کسی کو ہبہ کئے ہیں۔ یہ ضرب المثل اس ظالم کے بارے میں ہے جو آپ سے ایسی چیز پر جھگڑا کرے جس پر اس کا کوئی حق نہ ہو۔

❁ یا إبلی عُودِی إلی مَبارِکِكِ: میرے اونٹو! اپنی بیٹھنے کی جگہوں پر واپس آ جاؤ۔ یہ اس شخص سے کہا جاتا ہے جو کسی ایسی چیز سے گریز کرتا ہو جس میں اس کی بھلائی ہو اور اس کے لئے ناگزیر ہو۔

❁ أتی عَلَیهِم ذو أتی: یہ بنوطی کا محاورہ ہے۔ ان کے ہاں ذو، الذی کے معنی میں مستعمل ہے۔ ضرب المثل کا معنی ہے: ان پر بھی وہی زمانہ اور موت کے حادثے آئے جو لوگوں پر آیا کرتے ہیں۔

❁ أتاكَ ریَّانَ بِلَبَنِهِ: وہ دودھ تیرے پاس اس وقت لایا جب خوب سیر ہو کر پی چکا تھا۔ یہ ضرب المثل اس شخص کے متعلق ہے جو کوئی چیز سخاوت کی بنا پر نہ دے بلکہ ضرورت سے زیادہ ہونے پر کسی کو دے دے۔

❁ أتَتْكَ بِخائِنٍ رِجلاهُ: خائن کو خود اس کے پاؤں تمہارے پاس لے آئے۔ یہ ضرب المثال اس بارے میں ہے کہ برائی برائی کرنے والے پر لوٹتی ہے۔ أتتك بحائنٍ رِجلاه بھی کہا جاتا ہے۔ حائن اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس کا مصداق وہ شخص ہے جس کا برا عمل ہی اس کے گلے کا پھندا بن جائے۔

❁ أتَتْكُم فالیةُ الأفاعِی۔ فالیة: سیاہ و سفید دھبوں والے گبریلے جیسے کیڑے جو بچھوؤں اور سانپوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ جب بل میں نظر آئیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پیچھے بچھو اور سانپ ہیں۔ یہ ضرب المثال برائی کی ابتداء کے متعلق ہے جس کے بعد بڑی برائی متوقع ہو۔ معنی ہے تمہارے پاس سانپوں کا پیش خیمہ آ گیا۔

❁ یاتیكَ كلُّ غدٍ بما فیه: آنے والی ہر کل تیرے پاس وہ لائے گی جو اس میں ہوگا۔ یعنی ہونے والی بھلائی یا برائی ساتھ لائے گی۔

❁ یـاتیك بـالأخبار مَنْ لَم تُزوِّد: تجھے وہ شخص خبریں لا کر دے گا جس کو تو نے سفر خرچ نہیں دیا۔ یہ ضرب المثل اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی کو خبریں دریافت کرنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ خبریں خود بخود مل جائیں۔ یہ طرفہ کا قول ہے۔ پورا شعر یوں ہے:

ستبدی لك الأیامُ ما كنت جاهِلاً

ویأتیك بالاخبار من لم تُزوِّدِ

(زمانہ جن باتوں سے تو بے خبر ہے تجھے بتا دے گا۔ اور تیرے پاس خبریں بھی وہ شخص لائے گا جسے تو نے سفر خرچ نہیں دیا ہوگا۔

❁ لا آتِیكَ حتی یؤُوبَ القارظان: میں قارظوں کے واپس آنے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ قارض سَلَم نامی درخت کے پتے توڑنے والے کو کہا جاتا ہے۔ یہ یمن کی سوغات ہے۔ اور ان پتوں سے چمڑا رنگنے کا کام لیا جاتا ہے کہتے ہیں یہ قبلہ عنزہ کے دو شخص یہ پتے توڑا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ گئے تو واپس نہ آئے۔

❁ لا آتیك سِنَّ الحِسْلِ: میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا کیونکہ حِسل (گوہ) کے دانت گرتے ہی نہیں۔

❁ كُلُّ آتٍ قریب: ہر آنے والا قریب ہے (جو آئے لحہ بلحہ قریب ہوتا جاتا ہے)۔

❁ ذاكَ أحَدُ الأحَدِیْن: وہ بے نظیر ہے۔

❁ أخَذَه بِرُمَّتِهِ: اس نے اس کو کلی طور پر لے لیا۔ رُمَّة: پرانی رسی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اس مثل کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو ایک اونٹ گلے میں رسی سمیت دیا تو ہر اس شخص کو جس نے کوئی چیز پوری پوری دی یا لی: دَفَعَهُ الیه برُمَّته و اخذه منه برُمَّته کہا جانے لگا۔

❁ قد یُؤخذ الجارُ بِذَنْبِ الجار: کبھی پڑوسی پڑوسی کے گناہ میں پکڑا جاتا ہے۔

❁ خُذْ من الرَّضْفَةِ ماعلیها: رَضْف ان گرم پتھروں کو کہا جاتا ہے جن سے دودھ گرم کیا جاتا تھا اس کا واحد رَضْفَة ہے۔ جب یہ پتھر دودھ میں ڈالا جائے تو کچھ دودھ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ یہ ضرب المثل کنجوس سے ملنے والی چیز کو غنیمت سمجھنے کے بارے میں ہے خواہ کتنی کم اور تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ مثل کا معنی ہے: پتھر پر جو کچھ لگا ہوا اس کو ہی لے لو۔ ہمارے ہاں محاورہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی، اس مفہوم کو ادا کرتا ہے۔

❁ خُذِ الأمرَ بِقَوابِلِهِ: معاملہ کو اس کے مقدمات سمیت لو۔ یعنی معاملہ کے پیش آنے سے پہلے ہی اس کے لئے تیار ہو جاؤ اور وقت نکل جانے سے پہلے اس کے لئے تدابیر اختیار کرو۔ بقوابله میں ب فی کے معنی میں ہے یعنی مراد ہے: فیما یستقبلك منه یعنی جو معاملہ آپ کو پیش آئے اس کے بارے میں۔

❁ خُذْ من الدهرِ ما صفا و من العیشِ ما كَفَی: زمانہ سے صاف صاف چیزیں لو اور اتنی روزی جو کافی ہو۔

❁ خُذْ ما طَفَّ لك: جو چیز قریب ہو لے لو۔

❁ لاتؤخِّر عملَ اليومِ لِغدٍ: آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔

❁ آخرُ الداء الكيّ: مرض کی انتہاء داغ دینا ہے یہ ضرب المثل مرض کے انتہائی حد تک پہنچنے سے متعلق ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ مریض کا ہر قسم کی دواء سے علاج کیا جاتا ہے اور موافق نہ آئے تو آخری علاج کے طور پر داغ دیا جاتا ہے۔ تو پھر کوئی علاج باقی نہیں رہتا سوائے موت کے۔

❁ آخِ الأكفاءَ و داهن الاعداءَ: اپنے جیسوں کو دوست بناؤ اور دشمنوں کو فریب دو۔

❁ أخوك أم الذئبُ؟: اس کا معنی ہے کیا تمہارا بھائی وہ ہے جو تمہاری ہمدردی کے لئے آئے یا بھیڑیا جو تمہیں ایذا دینے کے لئے آئے۔ نیز أصاحبٌ أنت فار كن اليك ام عدو فاحذر منك: آیا تو دوست ہے کہ تیری طرف مائل ہوں یا دشمن کہ تجھ سے بچوں۔ مثل کا مفہوم ہے: کیا آنے والا تمہارا بھائی ہے یا بھیڑیا؟

❁ أخوكَ مَن صَدَقَكَ: تیرا بھائی وہ ہے جو تجھ سے سچ بولے یعنی بے لوث محبت اور نصیحت کرے۔

❁ أخُوكَ مَنْ واساكَ بنَشَبٍ لامَنْ واساكَ بنَسَبٍ: تیرا بھائی وہ ہے جو مال سے تیری مدد کرے نہ کہ وہ جو محض قرابت جتائے۔

❁ إنَّ أخا الهيجاءِ مَنْ يسعى معك: جنگجو وہ ہے جو تمہارے ساتھ کام کرے۔

❁ إنَّ أخاكَ مَنْ آساكَ: تیرا بھائی وہ ہے جو تیری اعانت کرے۔ آسيتُ فلانا بمالي او غيره آپ اس وقت کہتے ہیں جب آپ نے اسے مال وغیرہ میں اپنا نمونہ بنایا ہو اور اسے اپنے برابر کرلیا ہو۔ اس مثل کا معنی یہ ہے: تیرا بھائی حقیقت میں وہ ہے جو تجھے آگے کرے اور اپنے آپ پر تجھے ترجیح دے۔ یہ مثل بھائیوں کا پاس ولحاظ کرنے پر اکسانے کے لئے ہے۔

❁ لِأَخِيكَ عَلَيْكَ مِثلُ الَّذِی لَکَ عَلَيْه: تیرے بھائی کا تجھ پر اتنا ہی حق ہے جو تیرا اس پر ہے۔

❁ رُبَّ أخٍ لم تلِدْهُ وَالِدَة: بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ماں جائے نہیں ہوتے۔ مراد سچا دوست وہ ہے جو بعض اوقات حقیقی بھائی سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے۔

❁ أدَبُ المرءِ خيرٌ مِن ذهَبِهِ: آدمی کا ادب اس کے سونے سے بہتر ہے۔

❁ الأدَبُ مالٌ و إستِعمالُهُ كَمال: ادب ایک دولت ہے اور اس کا استعمال کمال ہے۔

❁ نِعمَ المؤدِّبُ الدهرُ: زمانہ اچھا ادب سکھانے والا ہے۔

❁ مَأربةٌ لاحفاوة: وہ تیرا اکرام واحترام اپنی کسی غرض کے لئے کرتا ہے تیرے ساتھ محبت کی وجہ سے نہیں۔

❁ الأرضُ الواطِئة تشربُ ماءَ ها وماءَ غيرِ ها: پامال اور نرم زمین اپنا پانی بھی پیتی ہے اور دوسرے کا بھی۔

❁ بالارضِ وَلَدَتكَ أمُّك: تیری ماں نے تجھے زمین پر ہی جنا تھا۔ (غرور اور تکبر سے روکنے اور اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی ترغیب کے لئے کہا جاتا ہے۔)

❁ لِلأرضِ مِن كأسِ الكرام نصيبُ: سخی لوگوں کے پیالے میں زمین کا حصہ ہے۔

❁ وفي الأرض للحرّ الكريم مَنادِحُ: زمین میں آزاد اور شریف آدمی کے لئے بہت گنجائش اور روزگار کے بڑے مواقع ہیں۔

❁ لا اصلَ له و لافَصْلَ: اصل حسب ونسب اور فصل زبان اور گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ مفہوم ہے: وہ نہ تو خاندانی شرافت رکھتا ہے اور نہ ہی حسن گفتار والا ہے۔

❁ الاصيلُ يجودُ: جو شریف خاندان سے ہو اپنا مال خرچ کرتا اور جان تک دے دیتا ہے۔ یہ عبداللہ بن الزبیرؓ کا قول ہے۔

❁ الاصيلُ يعملُ بأصلِهِ: شریف شخص اپنی شرافت کے مطابق عمل کرتا ہے۔

❁ آفةُ العِلمِ النِسْيانُ: بھولنا علم کی مصیبت ہے۔

❁ أكَلَ عَلَيْهِ الدهرُ وَشَرِبَ: ایک زمانہ نے اس پر کھایا اور پیا ہے۔ لمبی عمر پانے والے کے لئے کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس نے زمانہ دراز تک کھایا اور پیا ہے۔

❁ أكَلْتُم تَمْرِیْ وَعَصَيْتُمْ أمْرِي: تم نے میری کھجوریں کھا کر میری نافرمانی کی۔ یعنی تم نمک حرام ہو۔

❁ آكُلُ لَحمِي ولا أدعه لآكِل: میں اپنا گوشت کھاؤں گا اسے کسی دوسرے کے لئے نہیں چھوڑوں گا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو خود کو اور رشتہ داروں کو خود ہی تکلیف دے کسی غیر کو ایسا نہ کرنے دے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اجنبی کے مقابلہ میں رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہئے خواہ رشتہ داروں اور تمہارے درمیان دشمنی ہی کیوں نہ ہو۔

❁ يأكُلُ التمرَ و أرْجَمُ بِالنَوَى: کھجوریں وہ کھا رہا ہے اور گٹھلیاں مجھے ماری جا رہی ہیں۔ یہ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو خود تو نفع اٹھائے اور پریشانیاں دوسروں کے لئے چھوڑ دے۔

❁ يأكُلُنِي سبعٌ ولا يأكُلُنِي كلبٌ: مجھے ایک درندہ کھا رہا ہے، کتا نہیں۔

❁ ياكله بضِرسٍ وَيَطَأُه بِظِلْفٍ: وہ ڈاڑھ سے اسے کھاتا اور سم سے کچلتا ہے۔ احسان فراموش کے لئے بولا جاتا ہے۔

❁ يأكُلُ بالضِرسِ الذى لم يُخلَق: وہ اس ڈاڑھ سے کھاتا ہے جو پیدا ہی نہیں ہوئی۔ یہ ضرب المثل اس شخص کے بارے میں ہے جو بغیر احسان کئے تعریف کروانا چاہے۔

❁ غيري يأكُلُ الدَّجاجَ و انا أقعُ في السياج: دوسرے لوگ مرغیاں کھائیں اور میں جھاڑی میں پڑوں۔

❁ أكلٌ وَحَمْدٌ خيرٌ من أكلٍ وصمت: کھانا اور تعریف کرنا

کھانے اور خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ احسان کرنے والے کی تعریف کرنے پر اکسانے کے لئے کہا جاتا ہے۔

❁ أَكْلاً وَذَمًّا: کھانا بھی اور مذمت بھی کرنا۔ اس شخص کے متعلق ہے جو کسی چیز سے فائدہ اٹھا کر اس کی مذمت کرے اور وہ چیز قابل مذمت بھی نہ ہو۔

❁ رُبَّ أَكْلَةٍ تمنعُ أَكَلاتٍ: کبھی ایک لقمہ بہت سے لقموں کو روک دیتا ہے۔ کیونکہ ایک لقمہ بیمار کردے تو انسان دوسرے لقموں سے بچتا ہے۔ پرہیز پر آمادہ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے۔

❁ آكَلُ من حوت: مچھلی سے بھی زیادہ کھانے والا۔

❁ آكَلُ من الرَّحي: چکی سے بھی زیادہ کھانے والا۔

❁ آكَلُ من السوس: گھن سے بھی زیادہ کھانے والا۔

❁ آكَلُ من ضرسٍ: ڈاڑھ سے بھی زیادہ کھانے والا۔

❁ آكَلُ من النار: آگ سے بھی زیادہ کھانے والا۔

❁ حتي يُؤَلَّفُ بَيْنَ الضبّ والنون: یہاں تک کہ گوہ اور مچھلی جمع ہو جائیں۔ نون مچھلی کے معنی میں ہے۔ یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حَتّٰى يَرِدَ الضبُّ یہاں تک کہ گوہ پانی تک پہنچے۔

❁ آلَفُ مِن حمامِ مكّة: مکہ کے کبوتر سے بھی زیادہ مانوس، (کیونکہ وہاں کبوتروں کو نہ تو کوئی چھیڑتا ہے نہ اس کا شکار کرتا ہے)

❁ آلَفُ من الحُمَّى: بخار سے بھی زیادہ مانوس۔ (کیونکہ بخار طویل ہو جائے تو مریض پرہیز اور علاج کرتا ہے لیکن جب اسے گمان ہو جائے کہ بخار اتر گیا ہے تو وہ پھر اس کے پاس لوٹ آتا ہے)

❁ آلَفُ مِن كَلْبٍ: کتے سے زیادہ مانوس۔ (کیونکہ گھر والا جب سفر جانے لگے تو اس کے پیچھے نہ گھوڑا جاتا ہے۔ نہ خچر، نہ مرغ اور نہ کوئی انسانوں سے مل جل کر رہنے والی چیز، صرف کتا جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے وطن اور جائے پیدائش کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

❁ أُمٌّ فَرَشَتْ فأنامَتْ: ماں جس نے بچھونا بچھایا اور سلا دیا۔ (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اپنے بھائی بندوں سے بہت حسن سلوک اور شفقت سے پیش آئے جیسے وہ ماں ہو کہ اس نے اپنے بچے کے لئے بستر بچھایا اور وہ بچہ اس پر لیٹ کر سکون سے سو گیا۔

❁ أُمُّ الأخرسِ تعرفُ بلغاتِ الخُرسان: گونگے کی ماں گونگوں کی زبانیں بڑی اچھی طرح جانتی ہے۔

❁ أُمٌّ سَقَتْكَ الْغَيْلَ من غيرِ حَبَلٍ: وہ ایسی ماں ہے جس نے تجھے حاملہ ہونے تک دودھ پلایا تھا۔ (غیل وہ دودھ جو بچہ حاملہ ماں کا پیتا ہے، یہ دودھ بچہ کے لئے مضر ہوتا ہے۔ یہ مثل اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو پہلے تو تجھے اپنا مقرب بنائے پھر پھینک دے اور بغیر کسی قصور نکال دے۔

❁ إلى أُمِّهِ يَلْهَفُ اللَّهْفانُ: فریاد کرنے والا اپنے کے پاس ہی فریاد کرتا ہے۔ (یہ آدمی کی اپنے اہل اور بھائیوں سے مدد مانگنے کے بارے میں ہے۔ لفھان افسوس کرنے والے اور سخت رنجیدہ کو کہتے ہیں۔)

❁ الامرُ يَعْرِضُ دُونَهُ الامرُ: معاملہ سے پہلے معاملہ پیش آجاتا ہے۔ (یہ قول مشکلات اور رکاوٹیں پیش آنے کے بارے میں ہے۔

❁ أَمْرَ مُبْكِيَاتِكَ لا أَمْرَ مُضْحِكَاتِكَ: رلانے والی باتوں کا دھیان کرو، نہ کہ ہنسانے والی باتوں کا (اس شخص کی بات پر عمل کرو جو تمہاری برائیوں کے بدانجام سے ڈرائے تاکہ تم اس سے چوکنا رہ کر نجات پاؤ اور اس شخص کی بات پر عمل نہ کرو جو تمہیں مصیبت میں پھنسانے کے لئے خطرات سے بے خوف کردے۔)

❁ لِأَمرٍ ما جَدَعَ قَصِيرٌ أنفَهُ: کسی مقصد کے لئے ہی قصیر نے اپنی ناک کاٹی۔ (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جس نے کوئی مطلب نکالنے کے لئے کوئی چال چلی ہو۔ یہ بات زباء نے اس وقت کہی جب اس نے دیکھا کہ قصیر کی ناک کٹی ہوئی ہے۔ زباء کا باپ ریان غسانی حضر کا بادشاہ تھا۔ جذیمہ ابرش نے اسے قتل کردیا اور زباء کو شام کی طرف نکال دیا۔ زباء رومیوں سے جا ملی۔ اور انتہائی حوصلہ و ہمت سے کام لے کر مردوں کو اکٹھا کیا، دولت خرچ کی اور اپنے والد کے گھر اور مملکت میں واپس آکر جذیمہ کو وہاں سے ہٹا کر قتل کردیا۔ جذیمہ کا ایک وزیر قصیر نامی تھا جس نے زباء کو قتل کرنے کے لئے ایک حیلہ سے کام لیا۔ اس نے اپنی ناک کاٹی، اپنے جسم پر چوٹیں لگائیں اور دعویٰ کیا کہ جذیمہ کے بھانجے عمرو نے اس کی یہ درگت بنائی ہے، اور وہ فرار ہو کر اس کے پاس پناہ لینے آیا ہے اور اس کی پناہ حاصل کی۔ اور تجارت اور دولت کمانے کے ذریعے زباء کا اعتماد حاصل کیا اور اس کے محل کے خفیہ مقامات کا پتہ چلالیا۔ پھر عمرو کے مسلح لوگوں کو بوریوں میں چھپا کر اور اونٹوں پر لاد کر تجارتی قافلہ کی صورت میں زباء کے شہر میں پہنچا۔ وہاں بوریاں کھول ڈالیں اور زباء کے محل کا محاصرہ کرکے اسے قتل کردیا۔ اس طرح زباء کو قصیر کی چال معلوم ہوئی اور اس نے یہ بات کہی، جو ضرب المثل بن گئی۔

❁ لِأَمرٍ ما يَسُودُ من يَسُودُ: جو سردار بنتا ہے کسی وجہ سے ہی بنتا ہے۔ (یعنی کوئی شخص استحقاق کی بناء پر قوم کا سردار بنا کرتا ہے۔)

❁ لَيْسَ للأمورِ بصاحبٍ من لم ينظر في العواقب: جو شخص انجام پر نظر نہ رکھے وہ معاملات پر کنٹرول کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔

❁ الاميرُ مَنْ لايعرفُ الاميرَ: امیر وہ ہے جو کسی دوسرے امیر کو نہ جانے۔

❁ ياحَبَّذا الإمارة ولو على الحجارة: حکومت بڑی اچھی چیز ہے چاہے پتھروں پر ہی ہو۔

❁ تأمُّلُ العيبِ عَيْبٌ: برائی ڈھونڈنا بھی برائی ہی ہے۔

❁ مَنْ أَمِنَ الزمانَ خانَهُ: جو بھی زمانہ سے محفوظ ہوا زمانہ نے اس سے خیانت کی۔

❁ آمَنُ مِنْ حمامِ مكّة: مکہ کے کبوتروں سے زیادہ محفوظ و مامون (دیکھو الف من حمام مکہ) امن کا مصدر امن ہے۔

❁ آمَنُ من الأرض: زمین سے زیادہ امین۔ آمن کا مصدر امانۃ ہے۔ زمین میں جو مختلف جنسوں کے دانے ڈالے جاتے ہیں وہ ادا کر دیتی ہے۔

❁ المُؤمنُ بِشْرُهُ فی وجهِهٖ و حزنُهُ فی قلبه: مومن کی خندہ پیشانی اس کے چہرہ پر ظاہر اور اس کا غم دل میں پوشیدہ ہوتا ہے۔

❁ الإِينَاسُ قبلَ الإبساس: مانوس کرنا دوہنے سے پہلے ہونا چاہئے (ایناس کسی کو مانوس بنانے کے معنی میں ہے۔ ابساس دوہتے وقت اونٹنی سے نرمی کے ساتھ پیش آنا کے معنی میں ہے۔ اس وقت اونٹنی کو بس بس کہا جاتا ہے اور اونٹنی کو بسوس کہا جاتا ہے۔ یہ مقولہ طلب کے وقت مدارات (نرمی) سے کام لینے کے متعلق ہے۔

❁ لَیسَ عَلَى الإِنسانِ الّا ما مَلَكَ: انسان کو صرف اس چیز پر اختیار ہے جو اس کی ملکیت ہو۔

❁ الانسانُ عبدُ الإِحسان: انسان احسان کا غلام ہے۔

❁ الانسانُ اِبْنُ یومِهٖ: انسان اپنے دن کا بیٹا ہے۔

❁ الانسانُ بالتفكير و اللّٰهُ بِالتدْبير: انسان غور وفکر کرتا ہے اور خدا تعالیٰ تدبیر کرتا ہے۔

❁ كُلُّ إِنسانٍ وهَمُّهُ: ہر انسان کا اپنا غم ہے۔

❁ انفٌ فی السَّماءِ و اِستٌ فی الماء: ناک آسمان میں اور چوتڑ پانی میں۔ (یہ کم کام کرنے اور بڑے بول بولنے والے کے لئے ہے۔ نیز کم رتبہ متکبر کے لئے بھی کہا جاتا ہے۔

❁ انْفُكَ مِنكَ و اِنْ كانَ اَذَنَّ: تیری ناک تیری ہے چاہے اس سے ریزش بہتی ہو۔ (کہا جاتا ہے ذَنَّ الرجلُ يَذِنُّ ذَنِيْنًا فهو اذن یہ مثل اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنی قوم کے ضعفا سے بیزار ہو)

❁ مِنكَ انفُكَ و اِن كانَ اَجْدَع: تیری ناک تیری ہی ہے چاہے کٹی ہوئی ہو۔ (اس شخص کے بارے میں ہے جس کی بھلائی یا برائی سے مفر نہ ہو، اگر چہ وہ زیادہ قریب نہ ہو)

❁ الأنام فرائسُ الأيّامِ: لوگ زمانہ کا شکار ہیں۔ (زمانہ آخر کار سب کو ختم کر دیتا ہے)

❁ مَنْ تَأَنّٰى اَدْرَكَ ماتَمَنّٰى: جس نے غور وفکر کیا بامراد ہوا۔

❁ و كلّ اناءٍ بالذی فيه يرشح: ہر برتن سے وہی کچھ ٹپکتا ہے جو اس میں ہو۔ (ینضح بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بہر حال مفہوم یہی ہے)

❁ عَلَى أَهْلِها تجني بَرَاقِش: براقش اپنے اہل پر ہی مصیبت لاتی ہے (براقش ایک عرب قبیلہ کی کتیا تھی۔ ایک دفعہ ان پر اچانک حملہ ہوا تو یہ لوگ بھاگ نکلے کتیا براقش ان کے ساتھ تھی۔ حملہ آوروں نے براقش کے بھونکنے سے تعاقب کیا۔ چنانچہ ان پر حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یہ مثل اس شخص کے بارے میں ہے جو ایسا کام کرے جو اس کے اور اس کے اہل خانہ کے لئے مضر ہو۔

❁ آفَةُ المروءَ ةِ خُلْفُ الوعد: شرافت کی مصیبت وعدہ خلافی ہے۔

❁ آفَةُ الجود الإسراف: سخاوت کی مصیبت فضول خرچی ہے۔

❁ آفَةُ الحديثِ الكَذِبُ: گفتگو کی مصیبت جھوٹ ہے۔

❁ آفَةُ العلمِ النسيانُ: علم کی مصیبت بھول ہے۔ (نسب کے عالم طبری کا قول ہے: علم کی مصیبت، قلت عطا، کمینگی اور سیر نہ ہونا ہے۔ چنانچہ علم کی آفت بھول، عطا کی قلت اس پر جھوٹ، کمینگی اس کی نااہل لوگوں میں اشاعت، عدم سیری اس سے سیر نہ ہونا ہے۔

❁ اوّلُ الغضبِ جنونٌ و آخِرُهُ ندم: غصہ کی ابتداء جنون اور انتہا ندامت ہے۔

❁ اوّل الغيث قطر: بارش کی ابتداء بوند ہے۔

❁ اوّل الشجرة النواة: درخت کی ابتداء گٹھلی ہے۔ یہ مثال ایسی چھوٹے کام کے لئے ہے جس سے بڑا نتیجہ نکلے۔

❁ لَستَ بأوّلِ مَنْ غرّهُ السَّرابُ: تو اکیلا وہ پہلا شخص نہیں ہے، جس کو سراب نے دھوکا دیا۔ (اس مثل کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص نے سراب دیکھ کر اسے پانی سمجھا، لہٰذا پانی ساتھ نہ لیا۔ جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یہ مثل بنی۔

❁ ایوان کسری: یہ محل اپنی انتہائی مضبوط، محفوظ، بلند اور عجیب الصفات عمارت کے لئے ضرب المثل تھا۔ دنیا کی عجیب عمارات میں شمار ہوتا تھا۔ اور بادشاہوں کی بہترین یادگاروں میں سے ایک، جسے مدائن میں بغداد سے ایک منزل کے فاصلہ پر کسریٰ پرویز نے کوئی بیس سال سے زائد مدت میں تعمیر کروایا تھا۔

ب

❁ البئرُ أبقى من الرشاء: کنواں ڈول کی رسی سے زیادہ پائیدار ہے۔ (الرشا ڈول کی رسی کو کہا جاتا ہے)

❁ كَالباحِثِ عَنْ حَتْفِهٖ بِظِلْفِهٖ: اپنے کھر سے اپنی موت کا سامان کرنے والے کی طرح (جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے "اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا)

❁ كَالباحِثِ عَنِ المُدْيَة: چھری تلاش کرنے والے کی طرح (کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کو ایک شکار ملا۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ شکار کو ذبح کرتا۔ شکار نے اپنے کھروں سے زمین کھودی تو ایک دبی ہوئی چھری نکلی۔ شکاری نے وہ چھری لے کر شکار کو ذبح کر دیا۔ یہ ضرب المثل ایسی چیز کے متعلق ہے جو تلاش کرنے والے کے لئے موجب ہلاکت ہو۔

❁ اَبْخَرُ من اَسَدٍ: شیر سے زیادہ منہ کی بدبو والا۔

❁ ابخر من صقر: شکرہ سے زیادہ منہ کی بدبو والا۔

❁ ابخر من فَهْد: چیتے سے زیادہ منہ کی بدبو والا۔

❁ ابخل من مادِرٍ: مادر سے زیادہ بخیل۔ مادر بنی ھلال سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی کنجوسی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے اونٹوں کو پانی پلایا، جس سے حوض کے نیچے بہت تھوڑا پانی بچا۔ اس نے وہاں پاخانہ کیا اور اس

سے حوض کو لیپ ڈالا تا کہ اس کے بعد کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسی وجہ سے اس کا نام مادر (لیپنے والا) پڑ گیا۔

هذه بتلك و البادئُ أظلم: یہ اس کا بدلہ ہے اور ابتداء کرنے والا ظالم تر ہے۔ (بدی کرنے والے کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کی ابتداء کرنے والا زیادہ ظالم بھی کہلاتا ہے۔

اَبْدَى الصريحُ عَنِ الرَّغْوَة: صاف اور خالص حصہ جھاگ سے جدا ہو گیا۔ (ایسے معاملہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جو پوشیدہ رہنے کے بعد سامنے آئے)

كُلُّ مَبْذُولٍ مَمْلُول: جب انسان کو کسی چیز سے روکا جائے تو وہ اس کا اور خواہاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا الٹ۔

بـالْبِـرِّ يُسْتَعْبَدُ الحُرُّ: احسان سے شریف انسان کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔

بَـرِئَـتْ قَائِبَةٌ من قُوب: قائبۃ کا معنی انڈہ ہے اور قوب کا معنی چوزہ ہے۔ اس کہاوت کا مفہوم یہ ہے: انڈہ چوزے سے بے تعلق ہو گیا۔ یعنی چوزہ کے انڈہ سے جدا ہونے کے بعد میں اور انڈہ چوزے کے کاموں کے ذمہ دار نہیں رہے۔

بَـرْدُ غَدَاةٍ غَرَّ عبدًا من ظَمَا: صبح کی ٹھنڈک نے آدمی کو پیاس کے بارے میں فریب دیا۔ (معاملات میں ترک احتیاط کے لئے ضرب المثل ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص ٹھنڈی صبح میں جانور لے کر جنگل میں گیا اور پانی ساتھ نہ لیا اور پیاس سے ہلاک ہو گیا۔

اَبْرَدُ مِن غِبِّ المطر: بارش کے اگلے دن سے بھی زیادہ سرد۔ (یہ ابرد من غب یوم المطر ہے)

اَبْرَدُ مِن عَضْرَس: برف سے زیادہ سرد۔ (عضرس اولے اور برف کو کہتے ہیں)

اَبْـرَدُ مـن فَـلْحَـس: فلحس سے زیادہ حق جتانے والا۔ (فلحس بنی شیبان کا ایک سردار تھا جو گھر بیٹھے لشکر کے لائے ہوئے مال غنیمت میں حصہ طلب کرتا، یہ حصہ دیا جاتا تو اپنی بیوی کا حصہ مانگتا، جب بیوی کا حصہ بھی دیا جاتا تو اپنے اونٹ کا بھی حصہ طلب کرتا، اس سے یہ ضرب المثل چل پڑی)

بَرْضٌ من عِدٍّ: بڑے ذخیرہ میں سے تھوڑا سا۔ (برض تھوڑی چیز کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ماء برض تھوڑا پانی۔ عدوہ پانی کہلاتا ہے جو ہمیشہ جاری رہے۔ ڈھیری میں سے مٹھی بھر دینے والے کے لئے بولا جاتا ہے۔

إنـما هـو كَبَرْقِ الخُلَّب: وہ تو دھوکا دینے والی بجلی کی طرح ہے۔ (بـرق خُـلَّـبٌ و برقُ خُلَّبِ اس بجلی کو کہتے ہیں جو چمکے مگر بارش نہ ہو یوں گویا بجلی دھوکے باز ہوئی۔ خلب اس بادل کو بھی کہتے ہیں جو برسے نہ۔ یوں بـرق الـخـلـب۔ بـرق السحاب الخلب کے معنی میں ہے۔ اس کے لئے بولا جاتا ہے جو وعدہ کرے مگر وعدہ خلافی کرے اور وفا نہ کرے)

عَسَى البارقةُ لا تُخْلِف: امید ہے کہ بجلی والا بادل وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ (امید کو نیکی سے وابستہ کرنے والے کے بارے میں بولا جاتا ہے)۔

ما كُلُّ بارقة تجود بماء ها: ہر بجلی والا بادل پانی نہیں برساتا۔

الَّذِي لايُبْصر من الغِربال يكون أَعْمَىٰ: جو شخص چھلنی سے بھی نہ دیکھ سکے اندھا ہوتا ہے۔

اَبْصِرْ وَسْمَ قِدْحِكَ: اپنے تیر کی علامت دیکھ لو۔ قدح وہ تیر جس سے جوئے کی رقم تقسیم کی جاتی ہے۔ وسمُ القدح: تیر پر بنائی جانی والی علامت۔ کہا گیا ہے کہ دیکھو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہیں کیا دینا یا لینا ہو گا۔

اَبْصَرُ مِن عُقاب: عقاب سے بھی زیادہ تیز نگاہ۔

اَبْصَرُ مِن نِسر: گدھ سے بھی زیدہ تیز نظر۔

اَبْصَرُ من الوَطْوَاط في الليل: رات کو چمگادر سے بھی تیز نظر۔

اَبْـصَـرُ مِـنْ زَرْقَـاءِ اليمامة: یمامہ کی زرقاء سے بھی زیادہ تیز نظر (زرقاء جدیس قبیلہ کی ایک عورت کا نام ہے۔ وہ اتنی تیز نگاہ تھی کہ تین منزل کے فاصلہ سے دیکھ لیتی تھی۔

لايَبِضُّ حَجَرُهُ: بض الحجر کا معنی ہے پتھر سے عرق جیسی نمی کا بہنا۔ کنجوس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ (ہمارے ہاں کہا جاتا ہے: ''پتھر میں جونک نہیں لگتی'' یا ان تلوں میں تیل نہیں)

اَبْطَأُ مِن غُراب نُوح: نوحؑ کے کوے سے بھی زیادہ دیر لگانے والا۔ (غراب نوح سے مراد وہ کوا ہے جسے نوحؑ نے اس لئے بھیجا تھا کہ دیکھے آیا پانی زمین سے ختم ہو گیا ہے یا نہیں اور اس کی خبر دے مگر وہ واپس ہی نہیں آیا)

اَبْطَشُ مِن دَوْسَر: دَوْسَر سے زیادہ سخت گیر۔ (دوسر عرب بادشاہ نعمان بن منذر کا ایک فوجی دستہ، جو دیگر تمام دستوں سے درشت اور گرفت کی سختی میں بڑھ کر تھا۔ دسر سے مشتق ہے جس کا معنی نیزہ مارنا ہے)

بَطْنِي عَطِرِي وسَائِرِي ذَرِي: میرے پیٹ پر عطر ملو۔ بدن کا باقی حصہ چھوڑ دو۔ (یہ بات ایک بھوکے شخص نے کہی تھی جو ایک قوم کا مہمان ہوا۔ انہوں نے لونڈی سے اسے عطر ملنے کو کہا۔ ایسے شخص کے متعلق کہا جاتا ہے جو اہم چیز کی دیکھ بھال کو نظر انداز کرے۔

البِطْنَةُ تَـأْفِنُ الفِطْنَةَ: زیادہ کھانا ذہانت کو ختم کر دیتا ہے۔ (افن الفَصِيل، کا معنی ہے اونٹنی کے بچے کا اپنی ماں کے تھن کا سارا دودھ پی لینا۔ یہ مثل اس شخص کے بارے میں ہے جو مال دار ہوا اور اس کی دولت سے اس کی عقل خراب ہو جائے۔)

مَـا أَبْعَدَ مَافَاتَ وَمَا أَقْرَبَ مَايَاتِي: جو نکل گیا وہ بہت دور ہو گیا اور جو آنے والا ہے وہ بہت قریب ہو گیا۔

أبْعَدُ من النجم: ستارے سے بھی زیادہ دور۔ یہاں نجم سے مراد

ثریا ہے جو ستاروں کے ایک جھمکے کا نام ہے)

❁ اَبْعَدُ مِن بیضِ الانوق: عقاب کے انڈوں سے بھی زیادہ دور (انوق کا معنی عقاب ہے۔ جس کا گھونسلہ سب پرندوں کی نسبت دورترین ہوتا ہے۔ یہ مثل چیز کی دوری اور ناقابل حصول ہونے کے بارے میں ہے)

❁ اَبْعَدُ من مناطِ الثریّاء: ثریا کے لٹکن سے زیادہ دور (مناط کا معنی وہ چیز ہے جس سے کوئی چیز لٹکائی جائے یا کسی دوسری چیز کو اس سے باندھا جائے)

❁ اَبْعَدُ مِنْ مناطِ العَیُّوق: عیوق کے لٹکن سے بھی زیادہ دور۔ (عَیُّوق: ثریا کے ساتھ طلوع ہونے والا ستارہ)

❁ البُعْدُ جفاء: دوری ستم ہے۔

❁ رُبَّ بَعِیدٍ اَنفعُ من قریب: بہت سے دور والے پاس والوں سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔

❁ اِنَّ البُغاثَ بِاَرْضِنا یَسْتَنْسِر: ہماری زمین میں بغاث بھی کرگس ہو جاتا ہے۔ (بغاث ایک کمزور پرندہ ہے۔ استنسر کا معنی طاقت میں کرگس جیسا ہو جانا ہے۔ ایسے معزز شخص کے لئے کہا جاتا ہے، جس کے پاس ذلیل معزز یا کمزور طاقتور ہو جائے۔

❁ اِنْ یَبْغِ عَلَیكَ قومُكَ لا یَبْغِ علیك القمرُ: اگر تیری قوم تجھ پر ظلم کرے تو چاند ایسا نہیں کرے گا۔ (جاہلیت میں کچھ لوگوں نے چودھویں رات کو سورج اور قمر پر شرط لگائی۔ کچھ نے کہا کہ سوج طلوع ہوگا تو چاند بھی نظر آرہا ہوگا۔ دوسروں نے کہا نہیں بلکہ چاند سورج نکلنے سے پہلے غروب ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ایک شخص کو ثالث بنایا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا میری قوم مجھ پر ظلم کرتی ہے۔ تو ثالث نے یہ بات کہی جو ضرب المثل بن گئی۔ بغی ظلم کو کہتے ہیں۔ اس مثل میں کہا گیا ہے کہ اگر تیری قوم تجھ پر ظلم کرے تو چاند تجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ لہٰذا صبح کا انتظار کر لے معاملہ اور حق واضح ہو جائے گا۔ یہ ضرب المثل مشہور بات کے لئے ہے)

❁ مِن اِبْتِغَاءِ الخیرِ اِتِّقاءُ الشرّ: برائی سے بچنا دراصل بھلائی تلاش کرنا ہے۔

❁ علی الباغی تَدُورُ الدوائرُ: ظالم کے سر پر ہی مصیبتیں گھومتی ہیں۔

❁ کَمُبْتَغِی الصیدِ فی عِرّیسةِ الأسَد: شیر کی کچھار میں شکار تلاش کرنے والے کی طرح (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو غیر محل میں اپنی ضرورت طلب کرے یا جہاں وہ مغلوب ہو جائے یا جو محال چیز طلب کرے۔

❁ بَقْبَقَةٌ فی زَقْزَقَة: ہنسی میں شور اور بک بک۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو شیخی بگھارے یا بے پر کی اڑائے۔

❁ بَقْلُ شَهْرٍ وشوكُ دَهْرٍ: ساگ مہینہ بھر کا کانٹا ہمیشہ کا۔ (اس شخص کے لئے جو کم خیر اور بہت شر والا ہو کہا جاتا ہے۔

❁ ما اِسْتَبْقَاكَ مَنْ عَرَّضَكَ للأسد: جس نے تجھے شیر کے آگے ڈالا اس نے تجھے زندہ نہ رہنے دیا (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو تجھے ایسی بات پر اکسائے جس کا انجام ناپسندیدہ ہو)

❁ لایَبْقَی شیٌٔ عَلَی حالِهِ: کوئی چیز اپنی حالت پر برقرار نہیں رہتی۔

❁ بَقِّ نَعْلَیكَ وابْذُلْ قَدَمَیكَ: اپنے جوتے کو باقی رکھو اور پاؤں کام میں لاؤ۔ (یعنی جان لڑا دے اور مال بچا تا کہ معاملات خراب نہ ہوں)

❁ اَبْقَی مِن وَحْیٍ فی حَجَرٍ: پتھر پر لکھی ہوئی حکمت سے بھی زیادہ پائیدار (یعنی عرب حکمت کی باتیں پتھروں پر لکھا کرتے تھے تا کہ پائیدار رہیں۔ لوگ کہتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر: بچپن میں حاصل کیا ہوا علم پتھر کی لکیر کی طرح ہے)

❁ اَبْقَی من العَصْرَیْن: صبح و شام سے بھی زیادہ پائیدار (عصرین صبح و شام کو کہتے ہیں)

❁ اَبْقَی من النَسْرَین: نسرین سے زیادہ پائیدار۔ (نسرین دو ستارے ہیں جن میں سے ایک النسر الطائر اور دوسرے کو النسر الواقع کہا جاتا ہے۔

❁ اَبْقَی من الدهر: زمانہ سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا۔

❁ اَبْقَی مِن حَجَرٍ: پتھر سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا۔

❁ باکِرْ تَسْعَدْ: صبح اٹھا کر نیک بخت بن جائے گا۔

❁ اَبْكَرُ من غراب: کوے سے بھی زیادہ سویرے اٹھنے والا۔ (کوا سب پرندوں سے پہلے اٹھتا ہے)

❁ ماتَبُلُّ إحدیٰ یدیه الأخریٰ: اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو تر نہیں کرتا۔ (بخیل شخص کے بارے میں ہے)

❁ بَلَغَ مِنهُ المُخَنَّق: وہ انتہائی مشقت میں پھنس گیا (مخنق بمعنی حلق ہے۔ اگر پانی ڈوبنے والے کے حلق سے تجاوز کر جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے)

❁ بَلَغَ الحِزامُ الطُبْیَیْن: تنگ پستان تک پہنچ گیا۔ (طبی اطباء کا واحد ہے بمعنی تھن کا سرا۔ اس معاملہ کے لئے یہ ضرب المثل ہے جو انتہائی شدید اور مشکل ہو)

❁ بَلَغَ السیلُ الزُبیٰ: سیلاب ٹیلے تک پہنچ گیا۔ (زبی زبیة کی جمع ہے زبیة کا معنی ٹیلہ ہے۔ وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا اگر سیلاب ٹیلہ تک پہنچ جائے تو وہ سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ یہ مثل اس چیز کے بارے میں ہے جو حد سے متجاوز ہو جائے اور جب معاملہ سنگین صورت اختیار کر لے)

❁ بَلَغَ السِکّینُ العظمَ: چھری ہڈی تک پہنچ گئی۔ یہ بلغ السیل الزبی کے مفہوم میں ہے)

❁ بَلَغَتِ الدماءُ الثُنَن: خون چوپایوں کے ٹخنوں تک پہنچ گیا (ثُنن ثُنّة کی جمع ہے جس کا معنی جانور کے ٹخنے کے پچھلے حصہ کے بال ہیں۔ یہ برائی کی سنگینی کے وقت کہا جاتا ہے، جیسے ایسے موقع پر بلغ السیل

الزُبیٰ کہا جاتا ہے۔

❁ لَو بلغَ الرزقُ فاہ لو لاّہُ قفاہُ: اگر رزق اس کے منہ تک پہنچ جائے تو بھی وہ اس کی طرف پیٹھ کرلے گا۔ (محروم کے لئے بولا جاتا ہے)

❁ ما عَسَیٰ اَن یَبْلُغ عَضُّ النَمْل: امید نہیں کہ چیونٹی کا کاٹنا اپنی جگہ پہنچے۔ (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کی دھمکیوں کی کوئی پروا نہ کرے)

❁ اَبْلَغُ مِن قُسّ: قُسّ سے زیادہ بلیغ (مراد قس بن ساعدہ سے ہے جو فصاحت وخطابت میں ضرب المثل تھا اور عرب کے داناؤں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسی نے سب سے پہلے امابعد کہا، اور وہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے کہا: البیّنۃَ علی مَنْ اِدَّعٰی والیمینُ علی مَنْ اَنکرَ مدعی کے ذمے دلیل وحجت اور جو الزام سے انکار کرے اس کے ذمے قسم ہے)

❁ ابلہ مِن الحُبارٰی: حُبارٰی سے زیادہ بے وقوف (حباری ایک پرندہ ہے اور بے وقوفی اور کم سمجھی میں ضرب المثل ہے۔ اس کی مادہ جب اپنے انڈے چھوڑ کر جاتی ہے تو انہیں بھول جاتی ہے اور دوسروں کے انڈے سینے لگ جاتی ہے)

❁ اِنَّ البَلاءَ مُوَکَّلٌ بالمَنطِق: ہر بلا الفاظ کے صحیح استعمال کے لئے جوابدہ ہے۔

❁ البلایا علی الحَوَایا: حوایا حَوِیّۃ کی جمع ہے اور حویۃ اونٹ کی کوہان کے گرد رکھے جانے والے اس نمدہ کو کہا جاتا ہے جس میں بھوسا بھرا ہوا ہو۔ اس مثل کا معنی یہ ہے کہ مصائب جن لوگوں پر آنے ہوں آکر رہتے ہیں کوئی ان سے بچ نہیں سکتا۔ مقدر کا لکھا پورا ہوتا ہے۔ نیز اس شخص کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے جو خود مصیبت مول لے۔

❁ بَنَانُ کَفٍّ لیس فیہا ساعِدُ: ایسی ہتھیلی کی انگلیاں جن کا بازو نہیں۔ یہ اس شخص کے لئے ہے جو ہمت تو رکھتا ہو مگر دل کی مراد حاصل کرنے کی طاقت سے محروم ہو۔

❁ انا ابنُ جلا: میں جلا کا بیٹا ہوں (یہ مشہور ومعروف شخص کے لئے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شاعر کے قول کا ٹکڑا ہے، جو یہ ہے۔

انا ابنُ جلا و طلاّعُ الثنایا

متی أضعِ العمامۃَ تعرفونی

(میں جلا کا بیٹا ہوں اور گھاٹیوں پر چڑھ جانے والا ہوں۔ جب میں عمامہ اتاروں گا تو تم مجھے پہچان لوگے) ابن جلا دراصل انا ابن الذی یقال لہ جلا الاموزَ و کشفَہا (میں اس کا بیٹا ہوں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے امور کو واضح اور آشکارا کیا)

❁ رُبَّ ابنِ عَمّ لَیسَ بابنِ عَمّ: بہت سے چچازاد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چچازاد نہیں ہوتے۔ (جو چچازاد نہ تمہاری مدد کرے اور نہ کوئی فائدہ پہنچائے وہ گویا تمہارا چچازاد نہیں ہے)۔

❁ بِنتُ صفًا تقولُ مَن سَمَاع: بنت صفا وہی کہتی ہے جو سنتی ہے۔

(بنت الصفا ایسا ہی کلمہ ہے جیسے بنت الجبل جس کا معنی صدائے بازگشت ہے۔ صدائے بازگشت وہ آواز ہے جسے پہاڑ وغیرہ آواز دینے والے کی طرف لوٹا دے۔ اس کو مونث صیغے کے معنی پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ضرب المثل اس شخص کے بارے میں ہے جسے اگر کسی اچھے یا برے کام کی طرف مدعو کیا جائے تو وہ اس پر عمل کرے، جیسے پہاڑ کی گونج ہر آواز کا جواب دیتی ہے۔ یہ مثل اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو ہر بولنے والے کے ساتھ بات کرے اور ہر سوال کرنے والے کو جواب دے۔

❁ یَبْنِی قَصْرًا و یہدِمُ مِصرًا: وہ محل تعمیر کرتا ہے اور شہر گراتا ہے۔ اس شخص کے متعلق بولا جاتا ہے جس کی شر اس کے خیر سے زیادہ ہو۔

❁ اَبْہٰی من القَمَرَین: آفتاب اور ماہتاب سے بھی زیادہ درخشاں (ہمارے ہاں چندے آفتاب چندے ماہتاب)

❁ بَالَ حِمَارٌ فاستبالَ اَحْمِرۃً: ایک گدھے نے پیشاب کرکے بہت سے گدھوں سے پیشاب کرایا۔ (احمرۃ حمار کی جمع ہے۔ اس قوم کے متعلق کہا جاتا ہے جو ایک شخص کے برے کام کی تقلید کرنے لگے)۔

❁ بَالَتْ بینہم الثعالبُ: ان کے درمیان لومڑیوں نے پیشاب کردیا۔ (ایسی قوم کے بارے میں ہے جن کے درمیان فساد پڑ جائے۔

❁ لو کان فی البومۃ خیرٌ ما ترکہا الصیّادُ: اگر کسی الو میں کوئی بھلائی ہوتی تو اسے شکاری بھی نہ چھوڑتا۔

❁ بیْتِی یبخلُ لا انا: میرا گھر بخل کرتا ہے میں نہیں۔ یہ بات ایک عورت نے کہی جس سے ایک چیز مانگی گئی تھی جو اس کے پاس نہیں تھی۔ تو اسے کہا گیا کہ اس نے بخل سے کام لیا تو اس نے مندرجہ بالا مثل کہی جس کا معنی یہ ہے کہ بخل میرے مزاج میں نہیں لیکن گھر میں دینے کو کوئی چیز نہیں۔

❁ اَبَادَ اللّٰہُ خضراءَہم: اللہ کرے ان کی آسودگی اور خوش حالی جاتی رہے۔ (بددعا ہے)

❁ کانت بیضۃُ الدیك: مرغ کا انڈا تھا۔ (یہ مثل اس چیز کے لئے بولی جاتی ہے جو صرف ایک دفعہ ہو۔ کیونکہ عربوں کے نزدیک مرغ بھی ایک بار انڈا دیتا ہے)

❁ بَیْضَۃُ الیومِ خیرٌ مِنْ دُجاجۃِ الغد: آج کا انڈا کل کی مرغی سے بہتر ہے۔ (نو نقد نہ تیرا ادھار)

❁ بیضۃُ البَلَد: (دیکھیں اذل مادہ "ذ" میں۔ مراد وہ ریتلی جگہ جہاں شتر مرغ انڈے دیتے ہیں۔ یعنی کوئی اس کا پرسان حال نہیں)

❁ دُونَہ بَیْضُ الاَنُوق: اس سے ورے عقاب کا انڈا ہے۔ (عقاب ایسی جگہ انڈا رکھتا ہے جس تک دوری اور پوشیدگی کی وجہ سے رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ اس چیز کے لئے کہا جاتا ہے جس کا حصول مشکل ہو)

❁ ما کُلُّ بَیضاءَ شحمۃٌ ولا کُلُّ سوداءَ تَمرۃٌ: نہ ہر سفید چیز چربی ہوتی ہے اور نہ ہر کالی چیز کھجور۔ (ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی)

❁ لمن باعَ بِعِرضِہ نَفَقَ: جو اپنی آبرو بیچے وہ سب کچھ ضائع کردیتا

ہے۔(جو بھی لوگوں کی گالیاں سننے والے کام کرے گا اسے گالیاں تیار ملیں گی۔ انفق کا معنی ہے۔ بکتا ہوا پایا یا سہولت سے سودا ہو گیا۔

❁ بِعْتُ جَارِي ولم أبعْ دَارِي: میں نے پڑوسی بیچا ہے۔ اپنا گھر نہیں بیچا۔(مجھے اپنا گھر پیارا تھا لیکن اپنے پڑوسی کی بد خلقی کی وجہ سے گھر بیچ دیا تا کہ اس سے دور ہو جاؤں۔ اس شخص کے متعلق ہے جو پڑوسی کی بدمعاشی کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ دے۔

❁ لاتبعْ نقدًا بدَيْنٍ: نقد ادھار کے بدلہ میں نہ بیچ۔

❁ قد بَيَّنَ الصبحُ لِذِي عَيْنَيْنِ: بَيَّنَ یہاں تَبَيَّنَ کے معنی میں ہے۔ اس مثل کا مفہوم ہے۔ صبح آنکھوں والے کے لئے ظاہر ہو گئی۔ مکمل طور پر ظاہر معاملہ کے لئے بولا جاتا ہے۔

❁ أبْيَنُ مِن فَلَقِ الصُّبْحِ او فَرَقِ الصُّبحِ: صبح کی روشنی سے بھی زیادہ ظاہر۔(فلق الصبح اور فرق الصبح کا معنی فجر(سویرا، تڑکا) ہے۔

❁ إنَّ مِنَ البيَانِ لسحراً: جادو خوش بیانی کی ایک قسم ہے(یعنی بعض خوش بیانی جادو کا کام کرتی ہے۔ سحر کا معنی حق کی صورت میں باطل کا اظہار ہے۔ خوش بیانی کو سحر سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سننے والے میں بڑا کام دکھاتی ہے اور دل اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہ مثل تقریر کی پر جوش تائید اور دور رس دلیل پیش کرنے کے موقع پر بولی جاتی ہے۔

ت

❁ انا تَئِقٌ وانتَ مَئِقٌ فكَيْفَ نتَّفِقُ: میں غضبناک ہوں اور تو بے صبر ہے پھر ہم کیسے متفق ہوں۔(یہ دو مختلف عادات والوں کے متعلق ہے۔ تئق کا معنی غضبناک اور مئق بے صبر ہے۔)

❁ اتبعِ الفرسَ لِجَامَها والناقةَ زِمَامَها: گھوڑے کے ساتھ لگام اور اونٹنی کے ساتھ مہار بھی دو(تا کہ بخشش مکمل ہو۔)

❁ اَتْبِعِ الدَّلْوَ بالرشاء: ڈول کے ساتھ رسی بھی دو۔ رشاء پانی کھینچنے کی رسی کو کہتے ہیں۔(یہ ایک چیز دوسری سے منتہی کرنے کے متعلق ہے)

❁ اَتْبَعُ مِنَ الظِّلِّ: سایہ سے زیادہ پیچھا کرنے والا۔

❁ لَوْ إتجرْتُ بالأكفانِ ما مَاتَ احدٌ: اگر تو کفنوں کی تجارت کرتا تو کوئی نہ مرتا۔

❁ لاتجارةَ كَالعَمَلِ الصَّالِحِ: عمل صالح جیسی کوئی تجارت نہیں۔

❁ تَرَكَ ظَبْيٌ ظِلَّهُ: ہرن نے اپنا سایہ چھوڑ دیا۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو عیش و آرام سے نکل کر سختی و تنگی میں چلا جائے۔

❁ تَرَكْتُهُ على أنْقَى من الراحة: میں نے اسے ہتھیلی سے بھی زیادہ صاف حالت میں چھوڑا۔(یعنی اچھی حالت میں نہیں چھوڑا جیسے ہتھیلی پر بال نہیں ہوتے۔)

❁ تَرَكْتُهُم عَلَى مِثْلِ مِشْفَرِ الأَسَدِ: میں نے گویا اس کو شیر کے ہونٹ کے پاس چھوڑا(ہلاکت کے خطرہ میں چھوڑ دیا)

❁ تركتهم في حَيْصَ بَيْصَ او حَيْصِ بَيْصٍ حیص کا معنی فرار اور بوص کا معنی بھاگنا اور چھپنا۔ وزن میں مشابہت کے لئے اس کی واؤ کو یاء سے بدل دیا گیا ہے۔ ضرب المثل کا معنی ہے:"میں نے انہیں مشکل میں پھنسا ہوا چھوڑا۔" اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو ایسے معاملہ میں پھنس جائے جس سے نہ تو چھٹکارا ہو اور نہ فرار ممکن ہو۔

❁ مَا تَرَكَ الاوّلُ للآخرِ شيئاً: پہلے نے دوسرے کے لئے کچھ نہیں چھوڑا۔

❁ مَنْ تَرَكَ الشهواتِ عَاشَ حُرًّا: جس نے خواہشات کو چھوڑا، اس نے شرافت کی زندگی بسر کی۔

❁ لَوْ تُرِكَ القطا ليلاً لنَام: اگر قطارات کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ سو جاتا۔(اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے کسی تکلیف دہ کام پر مجبور کیا جائے یا جسے ظلم پر ابھارا جائے اور وہ ظلم کرے)

❁ لايَتْرُكُ السَّاقَ إلاَّ مُمْسِكاً ساقاً: وہ ایک تنہ کو دوسرا تنا پکڑے بنا نہیں چھوڑتا۔ اس مثل کی اصل گرگٹ میں ہے جو ایسا ہی کرتا ہے۔ مراد محتاط شخص ہے۔

❁ لايَتْرُكُ الظبْيُ ظِلَّهُ: ہرن اپنا سایہ نہیں چھوڑتا۔(مانوس کام پر ڈٹے رہنے کے متعلق ہے۔)

❁ اُتْرُكِ الشرَّ يَتْرُكْكَ: تو شر کو چھوڑ دے شر تجھے چھوڑ دے گا۔(یعنی شر اسے پیش آتا ہے جو اس سے پنگا لے)

❁ تَرْكُ الجوابِ على الجاهلِ جوابٌ: جاہل کو جواب نہ دینا ہی جواب ہے(جواب جاہلاں باشد خاموشی)

❁ تَرْكُ مالايَصْلُحُ أصْلَحُ: نا قابل اصلاح کو چھوڑ دینا زیادہ مناسب ہے۔

❁ إذَا تَمَّ العَقْلُ نقصَ الكلامُ: عقل کامل ہو جائے تو باتوں میں کمی آ جاتی ہے۔

❁ تَمَامُ الربيعِ الصيفُ: فصل ربیع کے آثار گرمی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔(اسی طرح عرب کہتے ہیں: الأعْمَالُ بِخَوَاتِيمِها۔ اعمال کا اعتبار ان کے خاتمہ سے کیا جاتا ہے تمام ضرورت پوری ہونے کے بارے میں ہے۔)

❁ اَتَمُّ مِن قَمَرِ التَّمِّ: پورے چاند سے بھی زیادہ کامل۔(تم کا معنی اس جگہ تمام ہے۔ یعنی بدر التمام۔

❁ التَّمْرَةُ وَالجَمْرَةُ: خیر و شر یا نفع و نقصان(تمرہ بمعنی کھجور جمرۃ بمعنی چنگاری ہے)

❁ التائبُ من الذنْبِ كَمَنْ لاذنْبَ له: گناہوں سے توبہ کرنے والا اس جیسا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔

❁ تاجُ المُرُوئَةِ التواضُعُ: شرافت کا تاج تواضع ہے۔

❁ اَتْيَهُ مَن قومِ مُوسَى: قوم موسیٰ سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا۔(تیہ کا معنی بھٹکنا ہے۔ مراد قوم موسیٰ کا چالیس سال ایسے صحراء میں رہنا ہے جس میں قدموں کے نشان نہیں ہوتے تھے)۔

ث

❁ ثَاطَةٌ مُدَّتْ بِمَاءٍ: بدبودار کیچڑ وہ بھی پانی والا۔ (ایسی گلی سڑی چیز جس میں ویسی ہی کسی اور چیز کا اضافہ ہو جائے۔ (ہمارے ہاں کریلا وہ بھی نیم چڑھا)

❁ أَثْبَتُ فِي الدَّارِ مِنَ الجِدَار: دیوار سے بھی زیادہ گھر میں ڈٹا رہنے والا۔

❁ أَثْبَتُ مِنَ الوَشْمِ: گودنے کے نقوش سے بھی زیادہ پائیدار۔

❁ مَالَهُ ثَاغِيَةٌ ولا رَاغِيَة: وہ قلاش ہے۔ (ثاغیة بھیڑ اور راغیة اونٹنی کو کہتے ہیں۔ یعنی اس کے پاس نہ تو بھیڑ ہے اور نہ ہی کوئی اونٹنی یعنی کچھ بھی نہیں)

❁ أَثْقَلُ مِنْ رَضْوَى: رضوی سے بھی زیادہ بھاری (رضوی مدینہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے)

❁ أَثْقَلُ مِنْ طَوْد: بڑے پہاڑ سے زیادہ وزنی۔

❁ أَثْقَلُ مِنْ أُحُد: احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی (اُحُد یثرب کے ایک پہاڑ کا نام ہے)

❁ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَيَّ جَرْدٍ تَرْقَعُ: تیری ماں تجھے روئے، تو کونسے کپڑے کو پیوند لگا رہا ہے؟ (جرد کا معنی پرانا کپڑا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ایسے کام کرے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو)

❁ الثَّكْلَى تُحِبُّ الثَّكْلَى: گمشدہ بچے کی ماں گم شدہ بچے کی ماں کو ہی پسند کرتی ہے۔ (کند ہم جنس با ہم جنس پرواز)

❁ لا يُثْمِرُ الشوكُ العِنَبَ: کانٹا انگور کا پھل نہیں دیتا۔

❁ ثَمَرَةُ الجُبْنِ لا رِبْحٌ ولا خُسْر: بزدلی کا نتیجہ نہ نفع نہ نقصان (خسر کا معنی نقصان ہے) یہ مثل ایسی ہے جیسے عام لوگ کہتے ہیں، التاجر الجبان لا يربح ولا يخسر بزدل تاجر نہ نفع کماتا ہے نہ نقصان اٹھاتا ہے۔

❁ لِكُلِّ ثَوْبٍ لابِسٌ: ہر کپڑے کا کوئی نہ کوئی پہننے والا ہے۔

❁ ثَارَ حَابِلُهُمْ عَلَى نَابِلِهِمْ: ان کا جال والا ان کے نیزے والے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ (مراد سب کچھ گڈمڈ ہو گیا۔)

❁ الثور يحمي أنفَهُ بِرَوْقِهِ: بیل بھی اپنی ناک کی حفاظت اپنے سینگ سے کرتا ہے۔ (روق کا معنی سینگ ہے۔ ہمارے ہاں اس کے مقابلہ میں ضرب المثل اپنی عزت آپ ہے)

ج

❁ أَجْبَنُ مِنْ نَعَامَةٍ: شترمرغ سے بھی زیادہ بزدل۔ (کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی چیز سے ڈر جائے تو خوف زدہ ہونے کے بعد وہ اس چیز کا رخ نہیں کرتا)

❁ أَجْبَنُ مِنْ صَافِرٍ: صافر سے زیادہ بزدل۔ (کہا جاتا ہے کہ صافر ایک پرندہ ہے۔ جو اپنی ٹانگوں سے درخت کی شاخ پکڑ کر الٹا لٹک جاتا ہے اور تمام رات سیٹی بجاتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سو جائے اور پکڑ لیا جائے)۔

❁ إِنَّ الجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ: بزدل کی موت اوپر سے آتی ہے (ایسے بزدل کے بارے میں کہا جاتا ہے جسے اس کی احتیاط بھی نہیں بچاتی)

❁ بِجَبْهَةِ العَيْرِ يُفْدَى حَافِرُ الفَرَس: گدھے کی پیشانی گھوڑے کے کھر کے فدیہ میں دی جاتی ہے۔ (عیر گدھے کو کہا جاتا ہے)

❁ الجَحْشَ لَمَّا فَاتَكَ الأَعْيَارُ: اگر گدھے نہ ملیں تو گدھے (کے بچے) (کے شکار) پر اکتفا کر۔ (یہ ضرب المثل ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کسی بڑی چیز کا خواہاں ہو اور وہ ہاتھ نہ آئے تو اسے کہا جائے کہ اس سے کم پر گزارہ کر۔ جحش اس لئے منصوب استعمال ہوا ہے کہ اصل میں اس سے پہلے اُطْلُبْ محذوف ہے)

❁ قَدْ جَدَّ أَشْيَاعُكُمْ فَجِدُّوا: تمہارے ساتھیوں نے کوشش کی ہے لہٰذا تم بھی کوشش کرو۔ (ساتھیوں کے کام میں شراکت پر ترغیب کے لئے کہا جاتا ہے الاشیاع بمعنی اصحاب ہے)

❁ مَنْ جَدَّ وَجَدَ: (جو کوشش کرے پالیتا ہے)

❁ جُدَّ لامْرِئٍ يَجُدُّ لَكَ: جس شخص کے لئے بھلائی چاہے گا وہ بھی تیرے لئے ایسی ہی بھلائی پسند کرے گا۔

❁ جَدُّكَ يرعى نَعَمَكَ: تیری کوشش تیرے مویشی چراتی ہے۔ (یہ مال دار مال اڑانے والے کے متعلق ہے۔)

❁ جَدُّكَ لا كَدُّكَ: کام میں تیری کوشش اور دلچسپی و توجہ تجھے فائدہ دیتے ہیں نہ کہ تیری شدت اور اصرار کے ساتھ طلب۔ جدّك لا كدّك بھی منقول ہے اس صورت میں اِبْغِ (امر) محذوف سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ عبارت یوں ہوگی۔ ابغ جدّك لا كدّك۔

❁ كُلُّ جِدَّةٍ سَتُبْلِيهَا عِدَّةٌ: ہر نئی چیز کو دن اور رات پرانا کر دیں گے۔ (عِدَّة سے مراد عِدَّةُ الايام و الليالي ہے۔)

❁ نِعْمَ الجُدُودُ وَلَكِنْ بِئْسَ مَا خَلَفُوا: آباء واجداد تو بہت اچھے تھے لیکن ان کے اخلاف بہت برے ہیں۔

❁ لا جَدِيدَ لِمَنْ لا خَلَقَ له: جس کے پاس پرانا نہ ہو اس کے پاس نیا بھی نہیں ہوگا (مراد یہ ہے کہ پرانے کی حفاظت کرو اسے ضائع نہ کرو تا کہ نیا بھی محفوظ رہے)۔

❁ جُدَيْدَةٌ فِي لُعَيْبَةٍ: (یہ) کھیل میں پوشیدہ بڑی سنجیدگی (ہے)۔ جُدَيْدَة جدّ کی تصغیر ہے اور اس کا معنی سنجیدگی ہے۔)

❁ مَنْ أَجْدَبَ انْتَجَعَ: جو قحط زدہ ہو وہ گھاس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ (انتجع القوم الكلأ کا معنی ہے لوگ گھاس کی طلب میں ایسی جگہوں پر گئے جہاں گھاس پایا جاتا ہے) ضرورت مند کے بارے میں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے لئے خوب کوشش کر)

❁ وبعضُ الجَدْبِ أَمْرَأُ لِلْهَزِيل: ایک خشک سالی (ایسی بھی ہوتی ہے جو) لاغر کے لئے بہت خوشگوار ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے

جو مالداری سنبھال نہ سکے اور ظلم اور گناہوں میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ الطعام المرئ پچنے والے خوشگوار کھانے کو کہا جاتا ہے۔

❁ جَدَحَ جُوَيْنٌ مِن سَوِيقِ غَيْرِهِ: جوین نے کسی اور کا ستو گھول لیا۔ (جوین ایک شخص کا نام ہے۔ جَدَحَ السويقَ کا معنی ستو کو گھی وغیرہ میں گھولنا ہے۔ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو دوسروں کے مال میں فیاضی دکھائے۔ یہ ضرب المثل ایسے شخص کے لئے بھی بولی جاتی ہے جو لالچی ہو اور بہت زیادہ سوالی ہو)

❁ أَجْدَى مِنَ الْغَيْثِ فِي أَوَانِهِ: بروقت بارش سے زیادہ سودمند (الإجداء کا معنی نفع ہوتا ہے۔ أجدى بمعنی أنفع: (زیادہ نافع، زیادہ سودمند) لیکن افعل التفضیل کا باب افعال سے اشتقاق شاذ ہے)

❁ جَذْبُ الزِمَامِ يَرِيْضُ الصِعَابَ: باگ کھینچ کر رکھنے سے بے سدھ گھوڑا سدھ جاتا ہے۔ (ایسے شخص کے لئے کہتے ہیں جو ابتداء میں حکم نہ مانے۔ مگر آخر میں مطیع ہو جائے۔ صِعاب ایسے گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس پر سواری نہ کی گئی ہو اور اس وجہ سے وہ اڑیل اور سرکش ہو جائے)

❁ أنا جُذَيْلُها الْمُحَكَّكُ وعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ: میں اس کا وہ تنا ہوں جس سے خارش زدہ بدن کھجلایا جاتا ہے اور وہ کھجور کا درخت ہوں جس کے گرد پتھروں کی باڑھ بنائی گئی ہو۔ (جُذَيْل جذْلِ کی تصغیر ہے۔ جذْل کا معنی درخت کا تنا ہے۔ عُزَيق عَذق کی تصغیر ہے۔ عَذق کا معنی کھجور کا درخت ہے۔ المُحَكك جس سے خارش زدہ اونٹ اپنا بدن کھجلائیں اور الْمُرَجَّب جس کے لئے باڑ بنائی جائے۔ یہ باڑ پتھروں کی ہوتی ہے اور کھجور کے درخت کے گرد اس وقت بنائی جاتی ہے جب وہ لمبا ہو جائے اور خطرہ ہو کہ آندھیاں اسے گرا دیں گی۔ تصغیر تعظیم کے لئے ہے۔ یہ بات وہ کہتا ہے جس کی عقل ورائے سے استفادہ کیا جائے۔

❁ جِذْلُ حُكَاكٍ: کھجلی دار بیماری کا تنا۔ (جذل درخت کا تنا، جو اونٹوں کے باڑوں میں نصب کر دیا جاتا ہے خارش والے اونٹ اس سے اپنا بدن کھجاتے ہیں۔ حکاک کھجلی دار بیماری کو کہتے ہیں۔ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جس کی رائے اور عقل سے شفا حاصل کی جاتی ہو۔

❁ كُلٌ يَجُرُّ النَارَ إِلى قُرْصِهِ: ہر شخص آگ کو اپنی ٹکیا کی طرف کھینچتا ہے۔ (یعنی ہر شخص اپنی ذات کے لئے خیر اور بھلائی چاہتا ہے)

❁ أَجْرَأُ مِن ذِي لُبْدَة: شیر سے زیادہ جری (ذی لُبدۃ بمعنی شیر)

❁ أَجْرَأُ مِنْ أُسَامَةَ: شیر سے زیادہ دلیر (اسامہ شیر کا نام ہے اور معرفہ ہے اس پر الف لام تعریف کا داخل نہیں ہوتا)

❁ أَجْرَأُ مِن لَيْثٍ بِخَفَّانَ: خفان کے شیر سے زیادہ بہادر (خفان شیروں کا مشہور جنگل)

❁ أَجْرَأُ مِن ذُبابٍ: مکھی سے زیادہ دلیر (جو بادشاہ کی ناک اور شیر کی پلک پر جا کر بیٹھ جاتی ہے)

❁ أَجْرَدُ مِن صَلَعَةَ: گنجے کی ٹانٹ سے بھی زیادہ ننگا (صَلَعَة گنجے کے سر کا وہ حصہ جو چمکتا ہے)

❁ أَجْرَدُ مِن صَخْرَةَ: چٹان سے زیادہ صاف (جس پر کوئی روئیدگی نہیں ہوتی اور چکنی ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی)

❁ كَالْجَرادِ لايُبْقِي ولايَذَرُ: ٹڈی کی طرح جو نہ تو کچھ رہنے دیتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے (یعنی سب کچھ چٹ کر جاتی ہے)

❁ جَرْعٌ و اَوْشَالٌ: سیرابی اور تھوڑا پانی؟ (جرع بمعنی سیراب ہو کر پانی پینا، وشل بمعنی تھوڑا پانی۔ یعنی مال تھوڑا ہے اور تو فضول خرچ ہے۔ فضول خرچی میں مال اڑانے والے کے لئے کہا جاتا ہے۔ نرمی اختیار کر ورنہ تو اپنی دولت ختم کر بیٹھے گا۔

❁ الجَرْعُ أَرْوَى والرَشِيْفُ أَنْقَعُ: پانی نگل لینا جلد سیراب تو کر دیتا ہے لیکن چوس کر پینا زیادہ تشفی بخش ہے۔ (رشیف کا معنی پانی چوس کر پینا۔ جرع بمعنی نگلنا ہے۔ نقع پیاس کی تسکین کے معنی میں ہے۔ یعنی پانی تھوڑا تھوڑا چسکیاں لے کر پیا جائے تو پیاس جلد بجھ جاتی ہے اور تسکین دیرپا ہوتی ہے۔ اروی بمعنی جلد سیر کرنے والا اور انقع بمعنی پائیدار تسکین بخش ہے۔

❁ لاجُرْمُ بَعْدَ النَدَامَةَ: ندامت کے بعد کوئی جرم باقی نہیں رہتا۔

❁ إذا جَرَى الْمُذَكِّي حَسَرتْ عَنْهُ الحُمُر: جب پوری عمر اور طاقت والا گھوڑا چلتا ہے تو گدھے تھک کر اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ حسر کا معنی تھکنا عاجز ہونا ہے۔ مذکی اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس کی عمر اور طاقت پوری ہو۔ یہ مثل ایسے شخص کے لئے کہی جاتی ہے جو اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جائے یعنی وہ اس طرح آگے نکلتا ہے جس طرح شرط میں تیز رفتار گھوڑا گدھوں سے آگے نکل جاتا ہے)

❁ يَجْرِي بُلَيْقٌ ويُذَمُّ: بلیق دوڑتا ہے پھر بھی اس کی مذمت ہوتی ہے (بلیق ایک گھوڑے کا نام ہے جو دوڑ میں جیتا کرتا تھا پھر بھی اس کی برائی کی جاتی تھی۔ یہ مثل اس وقت بولی جاتی ہے جب محسن کی مذمت کی جائے۔

❁ تَجْرِي الرِياحُ بِمَا لاتَشْتَهِي السُفُنُ: ہوائیں چلتی ہیں تو ایسی چیزیں بھی لے آتی ہیں جو کشتیوں کو ناپسند ہوں۔

❁ أَجْرِ الأُمُورَ عَلَى أَذْلالِها: معاملات کو صحیح طور پر چلاؤ۔ (اذلال کا واحد ذل (نرمی) ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب تم معاملہ صحیح طور پر چلاؤ گے تو تمہارے لئے ان کا درست طرز سے چلنا دشوار نہ ہوگا۔

❁ جَرْيُ الْمُذَكِّيات غِلاءٌ: پوری عمر اور طاقت والے گھوڑوں کی دوڑ میلوں تک ہوتی ہے۔ (غلا، غلوۃ کی جمع ہے جو اس انتہائی فاصلہ کو کہا جاتا ہے جہاں تک تیر جا سکے۔ یہ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھیوں پر فوقیت سے متصف ہو۔

❁ الجَزَعُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ مُصِيبَةٌ أُخْرَى: مصیبت کے وقت گھبراہٹ ایک اور مصیبت ہے۔

❁ جَزَاهُ جَزَاءَ سِنِمَّارَ: اس کو سنمار جیسی جزا دی۔ (سنمار بادشاہ نعمان

بن امری القیس کا رومی معمار تھا جس نے کوفہ کے باہر خوارنق نام کا محل تعمیر کیا تھا۔ جب وہ اس کی تعمیر سے فارغ ہوا تو بادشاہ نے اسے اوپر سے نیچے پھینک دیا جو گر کر مر گیا۔ مقصد یہ تھا کہ سنمار اس جیسا محل کسی دوسرے کیلئے نہ بنا سکے۔ یہ مثل ایسے محسن کے لئے بولی جاتی ہے جس کو بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا گیا ہو۔

❁ جَزَيْتُهُ كَيْلَ الصاعِ بالصاع: میں نے اس کو اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا لفظی ترجمہ میں نے اس کو پیمانہ کا پیمانہ سے بدلا دیا۔ یعنی برابر کا بدلہ دیا۔ (بھلائی کا بھلائی سے اور برائی کا برائی سے بدلہ دیا)

❁ هٰذا جزاءُ مُجِيرِ اُمِّ عامِرٍ: یہ بجو کو پناہ دینے والے کا بدلہ ہے۔ (امّ عامر بجو کی کنیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن خوف زدہ بجو ایک اعرابی کے پاس اس کے خیمہ میں آیا۔ اعرابی نے اسے پناہ دی اور کھلایا پلایا حتیٰ کہ سیراب اور مطمئن کر دیا۔ لیکن بجو کو جب موقع ملا اعرابی کو شکار کرلیا۔)

❁ الجزاءُ مِنْ جنسِ العَمَل: جزاء عمل کی قسم سے ہے (جیسی کرنی ویسی بھرنی یا جیسے کرم ویسے پھل)

❁ تَجَشَّأَ لُقْمانُ مِنْ غَيْرِ شِبَعٍ: لقمان نے پیٹ بھرے بغیر ہی ڈکار لی۔ (ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو غریب ہوتے ہوئے دولمندی ظاہر کرے یا کمزور ہوتے ہوئے بہادر بنے۔)

❁ جَعْجَعَةً ولا أَرَى طِحْنًا: چکی کی آواز سنتا ہوں لیکن آٹا نظر نہیں آتا (طِحن: آٹا۔ جَعْجَعة چکی کی آواز اس کے لئے کہا جاتا ہے جو وعدہ کر کے نہ نبھائے)

❁ من جَعَلَ نَفْسَهُ عَظْمًا أَكَلَتْهُ الكلابُ: جو شخص اپنے آپ کو ہڈی بنائے اس کو کتے کھالیں گے۔

❁ لاتَجْعَلْهَا بَيْضَةَ الدِّيكِ: اس کو مرغے کا انڈا نہ بناؤ (کہا جاتا ہے مرغا اپنی عمر میں ایک انڈہ دیتا ہے ایک شاعر کا قول ہے: قَدْ زُرْتِنا مَرَّةً فِي الدَّهْرِ واحِدَةً ثَنِّي ولا تجعليها بيضةَ الديك (اے محبوبہ! تو تمام عرصہ ایک مرتبہ ہی ہمارے پاس آئی ہے۔ دوسری بار بھی آ اور اس کو مرغ کا انڈا نہ بنا)۔

❁ أَجْفَى مِنَ الدَّهْرِ: زمانہ سے زیادہ بدخلق۔

❁ جِلْدُ الخِنْزِيرِ لايَنْدَبِغُ: سور کی کھال رنگی ہوئی نہیں ہوتی۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس پر نصیحت کارگر نہیں ہوتی)۔

❁ تَحْتَ جِلْدِ الضَّأْنِ قَلْبُ الأَذْؤُبِ: بھیڑ کی کھال کے نیچے بھیڑیوں کا دل (أذؤب ذئب کی جمع ہے ذِئب کا معنی بھیڑیا ہے۔ منافق اور دھوکے باز کے لئے کہا جاتا ہے)۔

❁ جَلِيسُ المَرْءِ مِثْلُهُ: آدمی کا ہم نشین اسی جیسا ہوتا ہے)

❁ جَلَّى مُحِبًّا نَظَرُهُ: دوست کے تیری طرف دیکھنے نے اس کی محبت کو ظاہر کر دیا (لوگوں کی محبت اور نفرت کے بارے میں یہ مثل بولی جاتی ہے)

❁ لايُجْمَعُ سَيْفانِ فِي غِمْدٍ: ایک میان میں دو تلواریں جمع نہیں ہوتیں۔

❁ مايُجْمَعُ بَيْنَ الأَرْوَى والنعام: پہاڑی بکرا اور شتر مرغ اکٹھے نہیں ہوسکتے (کیونکہ اروی (پہاڑی بکرا) ریگستان میں نہیں چل سکتا، جبکہ نعام (شتر مرغ) پہاڑ کی بلندیوں پر نہیں چڑھ سکتا۔ دو متضاد چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے)۔

❁ أَجْمَعُ مِنْ نَمْلَةٍ: چیونٹی سے زیادہ ذخیرہ اندوز (جو کل کے لئے جمع کر کے رکھتی ہے)

❁ مَنْ أَجْمَلَ قِيلًا سَمِعَ جَمِيلًا: جو اپنی گفتگو اچھی رکھے گا اچھی ہی سنے گا۔

❁ الجَمَلُ مِنْ جَوْفِهِ يَجْتَرُّ: اونٹ اپنے پیٹ سے ہی جگالی کرتا ہے۔ (اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو اپنی کمائی سے کھاتا ہے یا جو ایسی چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس کو نقصان پہنچائے)

❁ الجنونُ فُنُونٌ: جنون کی کئی قسمیں ہیں۔

❁ لِكُلِّ جَنْبٍ مَضْجَعٌ: ہر پہلو کے لئے خواب گاہ ہے۔

❁ لِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعٌ: ہر پہلو کے لئے پچھاڑ ہے۔ (یعنی ہر زندہ کے لئے موت ہے)

❁ إنَّ جانِبٌ أَعْيَاكَ فَالْحَقْ بِجانِبٍ: (اگر ایک پہلو نے تھکا دیا ہے تو دوسرے پہلو کے ساتھ لگ جا (یعنی پہلو بدل لے)

❁ جَنَتْ عَلَى أَهْلِها بَرَاقِشُ: براقش نے اپنے ہی مالکوں پر ظلم کیا۔ (اس ضرب المثل کی اصل یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے دشمنوں سے بھاگے پھرتے تھے ان کی ایک کتیا براقش نامی تھی۔ ایک رات وہ چلے جارہے تھے اور دشمن کہیں قریب ہی ان کو تلاش کررہے تھے تو انہیں کتیا کے بھونکنے سے ان کا پتہ چل گیا وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اسی واقعہ سے ایک ضرب المثل چل پڑی)

❁ إنَّكَ لاتَجْنِي مِنَ الشَّوْكِ العِنَبَ: تو کانٹوں سے انگور کے پھل نہیں چنے گا۔ (یعنی ظلم کرے تو انتقام سے ہوشیار رہ۔ کیونکہ ظلم کر کے تو بھلائی نہیں کما سکتا۔ اور یہ بھی مفہوم ہے کہ تجھے بداصل سے نیکی نہیں ملے گی)

❁ أَجْناؤُها أَبْناؤُها: دست درازی کرنے والے اس کے معمار ہی ہیں (اجناء جناہ کو کہا جاتا ہے جو جان کی جمع ہے۔ بمعنی جرم کرنے والا اور ابناء بان کی جمع ہے بمعنی معمار۔ جمع کی یہ مثل نادر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مثل کی اصل یہ ہے کہ یمن کے ایک بادشاہ نے جنگ پر جاتے ہوئے اپنی لڑکی کو قائم مقام بنایا، جس نے بادشاہ کے جانے کے بعد ایک عمارت بنوائی جسے بادشاہ نے اچھا نہیں سمجھا تھا یہ عمارت بنوانے پر لڑکی کو مملکت کے کچھ لوگوں نے اکسایا تھا۔ جب بادشاہ واپس آیا اور اسے ان کے مشورے سے مطلع کیا گیا تو بادشاہ نے اس عمارت کے گرانے کا حکم دیا اور اجناؤها ابناؤها کہا۔ اس پر یہ ضرب المثل مشہور ہوئی۔ اس

کا مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ عمارت گرانے کا جرم کر رہے ہیں جنہوں نے اسے تعمیر کیا تھا۔ یہ مثل برے مشورے اور بری رائے کے بارے میں ہے اور اس شخص کے لئے ہے جو بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرے پھر اسے خراب کی ضرورت پڑ جائے۔

❁ هَل يَجْهَلُ فلاناً إلَّا مَنْ يَجْهَلُ القمر: فلاں چیز سے وہی بے خبر ہو سکتا ہے جو چاند سے بے خبر ہو۔ (مشہور بات کے متعلق بولا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، چاند نکلا سب نے دیکھا)

❁ الجَهْلُ مطِيَّةٌ مَنْ رَكِبَها ذَلَّ وَمَنْ صَحِبَها ضلَّ: جہالت ایک ایسی سواری ہے جس پر سواری کرنے والا ذلیل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے والا راستہ سے بھٹک جاتا ہے۔

❁ الجَهْلُ شَرُّ الاصحاب: جہالت بدترین ساتھی ہے۔

❁ أجْهَلُ مِنْ عَقْرَب: بچھو سے بھی زیادہ جاہل (جو چٹان سے گزرتے ہوئے اسے ڈنک مار دیتا ہے جس سے چٹان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، الٹا وہ اپنے ڈنک کو نقصان پہنچا لیتا ہے)

❁ أجْهَلُ مِنْ فَراشَة: پروانہ سے بھی زیادہ جاہل (جو چراغ پر گر کر مر جاتا ہے)

❁ وعِندَ جُهَيْنَةَ الخَبَرُ اليَقِينُ: جہینہ کے پاس ہی یقینی خبر ہے۔ (کسی معاملہ کی حقیقت جاننے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ حُصَيْن غطفانیؔ گھر سے نکلا اس کے ساتھ بنی جہینہ کا ایک شخص اخنس بن کعب نامی تھا۔ دونوں میں سے ہر ایک بہادر اور بدعہد تھا۔ انہیں راستے میں بنی لخم کا ایک شخص ملا، جس کے آگے کھانے پینے کی چیزیں اور شراب رکھی تھی۔ اس نے ان دونوں کو مدعو کیا جس پر یہ اس کے مہمان بنے اور اس کے ساتھ کھایا اور پیا۔ پھر اخنس اپنے کسی کام سے چلا گیا۔ واپسی پر اس نے دیکھا کہ لخم قبیلہ کا وہ شخص خون میں لت پت پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حصین سے کہا، تجھے موت آئے اس شخص کو کیسے قتل کر دیا جس کا ہم نے کھایا پیا تھا۔ تو حصین نے جواب دیا: بیٹھ جا، ہم ایسے ہی کام سے نکلے تھے۔ پھر دونوں نے شراب پی اور باتیں کرنے لگے۔ حصین اسے بھی موقع پا کر قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جہینہ نے یہ بات محسوس کر لی۔ ایک گھنٹہ بعد حصین نے اس سے پوچھا: بھائی جہینہ کیا تو پرندہ کو فال شگون کے لئے اڑایا کرتا ہے؟ جہنی نے پوچھا: وہ کیا ہوتا ہے۔ حصین نے کہا یہ عقاب کیا کہتا ہے۔ جہنی نے جواب دیا تو اسے کہاں دیکھ رہا ہے۔ حصین نے کہا وہ یہ ہے اور سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ جہنی نے فوراً تلوار کی نوک اس کے سینے کے اوپر کے حصہ پر رکھ کر کہا۔ میں ہی زاجر اور ناحر ہوں (فال کے لئے پرندہ اڑانے والا اور ذبح کرنے والا) اور اس کی اور لخمی کی چیز اکٹھی کر وہاں سے نکل گیا۔ راستہ ہی میں قیس کے کچھ لوگ ملے ایک عورت حصین کے بارے میں پوچھتی تھی۔ جہنی نے اس سے سوال کیا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں صخرہ زوجہ حصین غطفانی ہوں۔ جہنی یہ کہتا ہی رہا

تُسائِلُ عَنْ حُصَيْنٍ كُلَّ رَكْبٍ
وعِندَ جُهَيْنَةَ الخبرُ اليقينُ

(تو حصین کے متعلق ہر سوار سے دریافت کرتی ہے حالانکہ یقینی خبر صرف جہینہ کے پاس ہے) اصمعی کا کہنا ہے کہ یہ لفظ فاء سے یعنی جفینة ہے۔ جفینة ہی وہ شخص تھا جسے مقتول کی خبر تھی۔ مقتول کے لوگ اور اس کی ایک بیٹی اسے ڈھونڈتے اور اس کے متعلق پوچھتے پھر رہے تھے۔ اسی کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے۔

تُسائِلُ عَنْ أَبِيها كُلَّ رَكْبٍ
وعِندَ جُفَيْنَةَ الخَبَرُ اليقِينُ

(وہ اپنے باپ کے متعلق ہر سوار سے دریافت کرتی، حالانکہ یقینی خبر صرف جفینہ کے پاس ہے)

❁ أجْوَدُ مِنْ حاتِم: حاتم سے زیادہ فیاض (جو سخی، بہادر اور شاعر تھا)

❁ إنَّ الجَوادَ قَدْ يَعْثُرُ: اصیل گھوڑا بھی کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے (اچھے کام کرنے والے کے بارے میں ہے جس سے غلطی ہو جائے)

❁ إنَّ الجوادَ عينُهُ فِرارُهُ: اصیل گھوڑے کی آنکھ ہی دانت دیکھ کر عمر کا اندازہ کرنا ہے۔ (فرار جانور کی عمر جاننے کے لئے اس کی عمر دیکھنا کے معنی میں ہے۔ اس شخص کے بارے میں بولا جاتا ہے جس کا ظاہر اس کے باطن پر دلالت کرتا ہو اور اس وجہ سے اس کو جانچنے کی ضرورت نہ رہے)

❁ لِكُلِّ جَوادٍ كَبْوَةٌ: ہر اصیل گھوڑے کو بھی ٹھوکر لگ جاتی ہے۔

❁ جاوِرْ مَلِكاً أو بَحْراً: بادشاہ کے پڑوس میں رہ یا سمندر کے (زندگی کی خوش حالی اور فراخی اہل ثروت سے طلب کرنے کے بارے میں بولا جاتا ہے)

❁ كَمُجِيرِ أمِّ عامِرٍ: بجو کو پناہ دینے والے کی طرح (کچھ لوگ شکار کے لئے نکلے انہیں راستہ میں بجو (ام عامر) ملا۔ انہیں اس کا تعاقب کیا۔ بجو نے ایک دیہاتی عرب کے خیمہ کو دیکھا تو اس میں گھس گیا۔ دیہاتی نے کہا خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ جب تک تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہے تم اس تک نہیں پہنچ سکو گے۔ شکاری اسے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ دیہاتی نے بجو کو دودھ دیا، پانی پلایا، بجو کی جان میں جان آئی اور اس نے آرام کیا پھر جب اس نے دیکھا کہ دیہاتی سو رہا ہے تو اس نے دیہاتی پر چھلانگ لگا کر اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا اور اس کا خون پیا۔ اور وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں جب دیہاتی کا چچا زاد آیا اور دیکھا کہ اس کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے بجو اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو بجو کے نقش قدم پر پیچھا کرتا ہوا چل پڑا اور اسے جا لیا اور قتل کر ڈالا۔ اور یہ شعر کہا

وَمَنْ يَصْنَعُ المَعْرُوفَ مَعَ غَيْرِ أَهْلِهِ
يُلاقِي الَّذي لاقَى مُجِيرُ أُمِّ عامِرٍ

(جو کوئی نااہل کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کو وہی جزا ملتی ہے جو ام عامر

کو پناہ دینے والے کو ملی) ہمارے ہاں "سانپ کو دودھ پلانا" اس حکیمانہ قول کا متبادل ہے)

❁ كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّار: اس شخص کی طرح جو تپتی ہوئی زمین سے بھاگ کر آگ کی پناہ طلب کرے (رمضا گرم اور تپتی ہوئی زمین کے معنی میں ہے۔ اور یہ مثل اس شعر کا ایک مصرع ہے۔

الْمُسْتَجِيرُ بِعَمْرٍو عِنْدَ كُرْبَتِهِ
كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ

("مصیبت کے وقت عمرو سے پناہ کا طالب گرم زمین سے بھاگ کر آگ کی پناہ لینے والے کی طرح ہے۔" ہمارے ہاں "چولہے سے نکل کر بھاڑ میں گرنا")

❁ الْجَارَ ثُمَّ الدَّار: یہ عربوں کے مقولہ الرفیق قبل الطریق کی طرح ہے۔ یعنی گھر خریدنے سے قبل پڑوسی کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے۔

❁ جَارُكَ الْأَدْنَى لَايَعْلُكَ الْأَقْصَى: قریب ترین پڑوسی کی حفاظت کرے گا تو دور ترین پڑوسی تجھ پر اختیار حاصل نہیں کر سکے گا۔

❁ جَاوَزَ الْحِزَامُ الطِّبْيَيْن: تنگ پستانوں سے بھی متجاوز ہو گیا (برائی اور ایذاء کے حد سے تجاوز کرنے میں مبالغہ سے کنایہ ہے۔ کیونکہ جب پستانوں تک جا پہنچے تو انتہا تک پہنچ چکتا ہے تو اس سے تجاوز کرنا کیسا ہوگا۔ طبیین بمعنی سر پستان ہے)

❁ تَجُوعُ الْحُرَّةُ وَلَاتَأْكُلُ بِثَدْيَيْهَا: شریف عورت بھوکی رہتی مگر اپنے پستانوں کی کمائی نہیں کھاتی (یعنی دودھ پلانے والی دایہ نہیں بنتی۔ مال کمانے کے رذیل طریقہ سے بچنے کے بارے میں ہے)

❁ أَجِعْ كَلْبَكَ يَتْبَعْكَ: اپنے کتے کو بھوکا رکھ تاکہ تیرا تابع رہے (یہ مثل کمینے کے بارے میں ہے جس کو ذلیل کرو تو وہ تمہارا مطیع ہو جاتا ہے۔ "کمینہ کو سر پر نہ چڑھاؤ")

❁ أَجْوَعُ مِنْ كَلْبَةِ حَوْمَل: حومل کی کتیا سے زیادہ بھوکا (حومل ایک عرب عورت کا نام ہے۔ وہ اپنی کتیا کو رات کے وقت باندھ دیا کرتی تھی تاکہ گھر کی رکھوالی کرے اور دن کو باہر نکال دیتی تھی تاکہ اپنا کھانا تلاش کرے۔ بہت دن جب اس طرح گزر گئے تو کتیا نے بھوک سے بیتاب ہو کر اپنی دم کھالی۔ تو یہ واقع ضرب المثل بن گیا۔

❁ أَجْوَعُ مِنْ ذُؤَالَةَ او أَجْوَعُ مِنْ ذِئْب: بھیڑے سے زیادہ بھوکا (ذؤالۃ بھیڑیے کا ایک خاص نام ہے۔ کہتے ہیں کہ بھیڑے کے لئے کوئی نہ کوئی چیز ضروری ہے، جسے وہ اپنے پیٹ میں ڈالتا رہے۔ گویا وہ ہمیشہ بھوکا ہوتا ہے۔ بھیڑیے کا پیٹ ہڈی پگھلا دیتا ہے۔ دشمن کو بددعاء دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ رَمَاهُ اللّٰهُ بِدَاءِ الذِّئْبِ خدا اسے بھیڑے کی بیماری (بھوک) میں مبتلا کرے)

❁ أَجْوَعُ مِنْ قُرَاد: چیچڑی سے زیادہ بھوکا (کہتے ہیں چیچڑی ایک سال اپنی پیٹھ اور ایک سال اپنا پیٹ زمین سے چمٹائے رکھتی ہے اور کچھ نہیں کھاتی۔ اونٹوں کو دور سے دیکھ کر ان کی طرف چل پڑتی ہے۔

اونٹوں کے چور چیچڑی کے متحرک ہونے سے اونٹوں کا سراغ پا لیتے ہیں اور انہیں لیجانے کی تیاری کر لیتے ہیں اور جب وہ قریب آتے ہیں تو ان پر کود پڑتے ہیں۔ چیچڑی سب جانوروں سے زیادہ حساس ہے۔)

❁ مَنْ جَالَ نَالَ: جو دوڑ دھوپ کرے پا لیتا ہے (ہمارے ہاں حرکت میں برکت ہے)

❁ أَجْوَلُ مِنْ قُطْرُب: قطرب سے زیادہ گھومنے پھرنے والا (قطرب ایک چھوٹا جانور ہے رات بھر گھومتا پھرتا ہے۔ سوتا نہیں)۔

❁ جَوْلَةُ الْبَاطِلِ ساعة وجَوْلَةُ الحقِّ إلى قِيامِ الساعة: باطل کا چکر ایک گھنٹے کا جب کہ حق کا چکر دائمی ہے۔

❁ جَاءَ بِمُطْفِئَةِ الرَّضَف: وہ گرم پتھر سے بھی بڑھ کر کوئی چیز لایا (رضف گرم پتھر کے معنی میں ہے۔ یعنی وہ گزشتہ چیز سے بھی سخت تر کوئی چیز لایا یا ایسی مصیبت لایا جس نے پہلی مصیبت کو جلا دیا اور اس کی حرارت بجھادی۔ بڑے بڑے امور کے متعلق ہے)

❁ جَاءَ بِالطِّمِّ والرِّمِّ: وہ سمندر اور زمین کی تہہ کو لایا (طِمّ سمندر یا بہت پانی کو اور رِمّ زمین کی تہہ کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ تمام ظاہری اور مخفی چیزیں لایا یا بہت مال لایا اور بہت تعداد لایا)۔

❁ جَاءَ الْعِيَانُ فَأَلْوَى بِالْأَسَانِيد: مشاہدہ آیا اور اسناد کو لے گیا (مشاہدہ کے بعد سند بیان کرنے کی حاجت نہیں رہتی)

❁ جَاءَ بِمَا صَأَى وصَمَتَ: وہ بولنے والا اور خاموش مال لایا (یعنی مویشی اور سونا چاندی وغیرہ)

❁ جَاءَ بِقَرْنَيْ حِمَار: وہ گدھے کے سینگ لایا (یعنی جھوٹ اور باطل۔ کیونکہ گدھے کے سینگ نہیں ہوتے گویا وہ ایسی بات لیکر آیا جو ممکن نہ ہو)۔

❁ جَاءَ بِذَاتِ الرَّعْدِ والصَّلِيل: وہ گرجنے والے بادل اور آواز کے ساتھ آیا۔ (یہ خوفناک برائی لانے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ جَاءَ نَاشِرًا أُذُنَيْهِ: وہ اپنے کانوں کو پھیلا کر آیا (حریص ہو کر آیا۔ منہ پھاڑے پیٹ پھیلائے)

❁ جَاءَ نَافِشًا عِفْرِيَتَهُ: وہ اپنی کلغی پھلا کر آیا۔ (عِفْرِيَة بمعنی مرغ کی کلغی۔ مراد غضبناک ہو کر آیا)

❁ جَاءُوا عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهِم: وہ سب کے سب آئے (ان میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا۔ بَكْر لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ لہٰذا جاؤوا علی بکرتهم بھی کہا جا سکتا ہے)

❁ إِذَا جَاءَ أَجَلُ الْبَعِيرِ حَامَ حَوْلَ الْبِئْر: جب اونٹ کی موت آتی ہے تو کنویں کے گرد گھومتا ہے۔ (ہمارے ہاں: جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے)

❁ إِذَا جَاءَ الْحَيْنُ حَارَتِ الْعَيْن: جب موت آتی ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے (حَيْن بمعنی اجل وہلاکت ہے)

❁ إِذَا جَاءَ الْقَدَرُ غَشِيَ الْبَصَر: جب قضا آئے تو آنکھوں پر پردے

پڑ جاتے ہیں۔)

۞ جاؤُوا قضًا وقَضِيضًا: چھوٹے بڑے سب آئے۔(قض پتھروں کے بڑے بڑے اور قضیض چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے۔ اسی معنی میں جاءَ القومُ قضُّهم وقَضِيضُهم مستعمل ہے)

۞ جِيفَةٌ لاتعكِرُ بحرًا: ایک مردار سمندر کو گدلا نہیں کرسکتا۔

ح

۞ مَنْ أَحَبَّ شيئًا أكثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ: جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہو اس کا بہت ذکر کیا کرتا ہے۔

۞ لا أُحِبُّ دَمِيْ فِي طَسْتِ ذَهَب: مجھے سونے کے طشت میں اپنا خون پسند نہیں۔(موت کے بعد شان وشوکت کس کام کی)۔

۞ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِيْ وَيُصِمُّ: کسی چیز سے تمہاری محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔(یعنی تم سے اس کی برائیاں چھپالیتی ہے اور اس کے بارے میں ملامت سننے نہیں دیتی۔ شاعر نے یہی مفہوم اخذ کر کے کہا ہے۔

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيْلَةٌ
وَلٰكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا

(پسندیدگی کی آنکھ ہر عیب سے بند ہوتی ہے مگر ناراضگی کی آنکھ برائیاں ظاہر کر دیتی ہے)

۞ الحُبُّ أَعْمَى: محبت اندھی ہوتی ہے۔

۞ لَيْسَ فِي الحُبِّ مَشْوَرَةٌ: محبت میں مشورہ نہیں کیا جاتا۔

۞ أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الإِنْسَانِ مَامُنِعَا: جس چیز سے انسان کو منع کیا جائے وہ اس کی پسندیدہ ترین شئے بن جاتی ہے۔ اسی مفہوم پر شاعر کہتا ہے:

رَأَيْتُ النفسَ تكْرَهُ مالَدَيْها
وتَطْلُبُ كُلَّ مُمْتَنِعٍ عليها

(میں نے نفس کو دیکھا ہے کہ اپنے پاس موجود چیز کو پسند نہیں کرتا بلکہ ہر وہ چیز مانگتا ہے جس کا حصول مشکل ہو)

۞ مِنَ الحَبَّةِ تَنْشَأُ الشَّجَرَةُ: دانہ سے درخت پیدا ہوتا ہے(یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے بڑے نتائج پیدا ہوتے ہیں)

۞ كُلُّ حَبَّةٍ لها كَيَّالٌ: ہر دانہ کیلئے کوئی نہ کوئی ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے۔

۞ حَبْلُكَ على غارِبِكَ: تیری رسی تیرے کوہان پر ہے۔ غارب کا معنی کوہان کا بالائی حصہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ تو جہاں جانا چاہے چلی جا۔ اصل اس مثل کی یہ ہے کہ جب اونٹنی چر رہی ہو تو مہار اس کے کوہان پر ڈال دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ کیونکہ جب اونٹنی مہار دیکھ لے تو اسے کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جسے چھوڑ دیا جائے کہ جہاں چاہے جائے اور جو چاہے کرے۔)

۞ رُبَّ حَثِيثٍ مَكِيثٌ: بہت سے جلدی کرنے والے دیر کرنے والے ہوتے ہیں۔(مکث سے ماکث و مکیث دیر کرنے والے کے معنی میں ہے۔ یعنی کبھی انسان کی جلدی دیر کا سبب بن جاتی ہے)۔

۞ مَافِي الحَجَرِ مَبْغًى: پتھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جسے طلب کیا جائے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ پتھر میں دھرا کیا ہے۔ بخل کے ثبوت اور خیر کی قلت کے بارے میں بولا جاتا ہے۔)

۞ المُحاجَزَةُ قَبْلَ المُناجَزَةِ: آڑ میں آنا لڑائی سے پہلے ہونا چاہئے۔(یعنی شر واقع ہونے سے پہلے رک جا اور جس سے مقابلہ کی طاقت نہ ہو اس سے راہ فرار اختیار کر۔ محاجزہ بمعنی حجز بين الشيئين (دو چیزوں کے درمیان آجانا) اور مناجزة لڑائی کی سرعت کے معنی میں ہے۔)

۞ إِنَّ الحَدِيدَ بالحَدِيدِ يُفْلَحُ: لوہے کو لوہے سے ہی چیرا جاتا ہے۔(فِلْح بمعنی پھاڑنا، چیرنا۔ اس سے فلاّح حرّاث کے لئے آتا ہے، جو زمین پھاڑتا ہے۔ یعنی شدید معاملہ میں اس جیسے معاملہ سے مدد لی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے: (لوہے کو لوہا کاٹتا ہے)

۞ ويَحْدُثُ مِنْ بَعْضِ الأُمُورِ أُمُورٌ: بعض باتوں سے باتیں پیدا ہوتی ہیں۔(ہم کہتے ہیں: بات سے بات نکلتی ہے یا بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے)

۞ حَدِّثْ عَنْ مَعْنٍ ولا حَرَجَ: معن سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں (معن بن زائدة بن عبدالله الشيباني عرب کے زیادہ فیاض لوگوں میں سے تھا۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو معاملہ کا فراخ ہو)

۞ حَدِّثْ عن البَحْرِ ولاحَرَجَ: سمندر کی بات کہو، کوئی حرج نہیں (معلومات میں اضافہ ہوگا)

۞ حَدِيثُ خُرَافَةَ: خرافہ کی بات (خرافہ ایک شخص کا نام ہے۔ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جن ایک مدت تک اسے حیران و مبہوت کرتے رہے۔ جب وہ قوم کے پاس آیا تو اس نے اپنے مشاہدات سے مطلع کیا۔ لیکن قوم نے اس کی تکذیب کی، حتیٰ کہ وہ ہر ناممکن الوقوع بات کو حدیث خرافہ کہنے لگے۔

۞ الحَدِيثُ ذُوشُجُونٍ: بات کے مختلف راستے ہیں (ذوشجون کا معنی ذوطرُق (راستوں والا) ہے۔ شُجون شجن کی جمع ہے۔ جس کا معنی وادی کا راستہ ہے، بعض کے نزدیک وادی کے بالائی حصہ سے گزرنے والا راستہ یا یہ شَجَن کی جمع ہے، جو لپٹی ہوئی شاخ اور ہر چیز کے شعبہ کے معنی میں ہے۔ لہٰذا الحدیث ذوشجون ایسی بات ہے جس سے اور باتیں نکلتی چلی جائیں۔ اور ایسی باتیں بھی ہونے لگیں جو مقصود نہ ہوں۔ اس مفہوم کو عام لوگ یوں بھی ادا کرتے ہیں۔

۞ الحديثُ يجرُّ بَعْضُهُ بعضاً: گفتگو کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو کھینچتا ہے۔)

۞ كَالحَادِي ولَيْسَ لَهُ بَعِيرٌ: اس ہانکنے والے کی طرح جس کے پاس کوئی اونٹ ہی نہ ہو۔(حدو اونٹوں کو پیچھے سے ہانکنا کے معنی میں ہے جبکہ قَوْدٌ آگے سے ہانکنے کے معنی میں۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا

ہے جو ایسی چیز پر شیخی بگھارے جو اس کی ملکیت نہ ہو یا اس شخص کے بارے میں جو ان باتوں کو اپنی طرف منسوب کرے جنہیں وہ اچھی طرح جانتا ہی نہ ہو)

❀ الحَذَرُ اَشَدُّ مِنَ الوقیعة: احتیاط اس چیز سے زیادہ سخت ہے جس میں گریبے سے بچا جائے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے۔ جو کسی چیز کو بہت عظیم سمجھتا ہو اور جب وہ کرنے لگے تو وہ اس کے گمان سے کہیں زیادہ آسان نکلے)

❀ اِنَّ الحَذَرَ لَا یَدْفَعُ المَقْدُوْرَ: احتیاط مقدر کو دور نہیں کرسکتی۔ (تقدیر کے آگے تدبیر کا بس نہیں چلتا)

❀ اَحْذَرُ مِنْ قِرلّی: قرلی سے زیادہ محتاط (قرلی ایک بہت محتاط آبی پرندہ ہے۔ پانی پر اڑتے اڑتے ایک آنکھ تو پانی کی گہرائی میں شکار کی طمع میں لگی ہوتی ہے اور دوسری سے ڈرتے ڈرتے فضا میں دیکھتا رہتا ہے۔ جب پانی میں کوئی مچھلی وغیرہ نظر آتی ہے جسے وہ اٹھا سکے تو تیر کی طرح اس پر جھپٹتا ہے۔ اور اگر فضا میں کوئی شکاری پرندہ دیکھ لے، تو زمین میں دور چلا جاتا ہے)

❀ اَحْذَرُ مِنْ غُرابٍ: کوے سے زیادہ چوکنا۔

❀ اَحْذَرُ مِنْ ذِئْبٍ: بھیڑیے سے زیادہ چالاک۔ (عربوں کا خیال ہے کہ بھیڑیا اس قدر چالاک ہے کہ سوتے ہوئے بھی باری باری ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے)

❀ کُلَّ الحِذَاءِ یَحْتَذِی الحَافِی الوَقِعُ: دکھتے ننگے پاؤں والا ہر قسم کا جوتا پہن لیتا ہے۔ (وَقِعَ یَوْقَعُ وَقَعًا فهو وَقِعٌ اذا حفی فاشتکی لحم قدمه من غلظ الارض و الحجارة: ننگے پاؤں ہونا اور پتھر یا سخت زمین پر چلنے کی وجہ سے پاؤں کے گوشت میں درد ہو جانا۔ وقع اس سے صفت کا صیغہ ہے۔ یہ مثل ایسے مصیبت زدہ کیلئے بولی جاتی ہے جو معمولی چیز پر قناعت کرلے)

❀ الحُرُّ حُرٌّ وَاِنْ مَسَّهُ الضُّرُّ: شریف شریف ہی رہتا ہے خواہ تنگی آجائے۔

❀ حِرَّةٌ تَحْتَ قِرَّةٍ: ٹھنڈک کے نیچے پیاس (حِرَّة بمعنی پیاس حرارت سے ماخوذ ہے اور قِرَّة بمعنی ٹھنڈک کے کہتے ہیں ٹھنڈے دن کی پیاس بہت سخت ہوتی ہے۔ ایسے شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو کینہ اور غیظ وغضب چھپا کر رکھے اور خلوص کا اظہار کرے)

❀ اَحَرُّ مِنْ نَارِ الغَضَی: غضی کی لکڑی کی آگ سے زیادہ گرم (نار الغضی گرم ترین آگ ہے۔ سب لکڑیوں میں سے غضی کی لکڑی صرف جلانے کے کام آتی ہے۔ گویا۔ یہ لکڑی آگ کے لئے ہی پیدا کی گئی ہے)

❀ اَحَرُّ مِنَ الجَمَرِ: انگارے سے زیادہ گرم۔

❀ اَحَرُّ مِنَ النار: آگ سے زیادہ گرم۔

❀ اَحَرُّ مِنَ المِرجَلِ: ہنڈیا سے زیادہ گرم۔

❀ اَحَرُّ مِنْ دَمْعِ المقلات: بچے کی سوگوار ماں کے آنسوؤں سے زیادہ گرم (مقلات اس عورت کو کہتے ہیں جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ چنانچہ غم کی وجہ سے اس کے آنسو ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غم کا آنسو گرم اور خوشی کا آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے)

❀ الحَرْبُ خُدعَةٌ: لڑائی دھوکا ہے (یعنی جنگ میں جوان دھوکا کھا جاتے ہیں)

❀ الحَرْبُ سِجَال: لڑائی میں پانسہ پلٹتا رہتا ہے۔ (کبھی ایک کو غلبہ کبھی دوسرے کو۔ سِجال اور مُسَاجَلَة کا معنی ویسا ہی کرنا جیسا ساتھی کرتے ہیں)

❀ الحَرْبُ غَشُوْمٌ: جنگ ظالم ہے۔ (جنگ کی لپیٹ میں وہ بھی آجاتا ہے جس کا کوئی جرم نہ ہو اور کبھی مجرم سلامت رہتا ہے)

❀ اَحْرَزَ امْرَأً اَجَلُهُ: آدمی کو اس کی موت نے ذخیرہ کرلیا (کہا جاتا ہے کہ یہ عربوں کی سب سے سچی ضرب المثل ہے)

❀ اَحْرَسُ مِنْ کَلْبٍ: کتے سے زیادہ رکھوالا

❀ الحِرصُ قائدُ الحرمان: لالچ محرومی کا پیش خیمہ ہے۔ (جیسے کہا جاتا ہے الحریص محروم (لالچی محروم رہتا ہے)

❀ اَحْرَصُ مِنْ نَمْلَةٍ: چیونٹی سے زیادہ حریص۔

❀ لَیسَ الحریصُ بزائدٍ فی رِزْقِهِ: حریص اپنے رزق میں اضافہ نہیں کرسکتا۔

❀ اِنَّهُ لَیُحَرِّقُ عَلَیَّ الْاُرَّمَ: وہ مجھ پر دانت پیتا ہے (ارم داڑھوں کو کہا جاتا ہے۔ مراد اس کا غیظ وغضب مجھ پر شدید ہے)

❀ حَرِّكْ لها حُوَارَهَا تَحِنَّ: اونٹنی کے بچے کو حرکت دیگا تو وہ پکارے گی (حوار اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو کہتے ہیں۔ دودھ چھڑا لیا جائے تو بچہ کو فصیل کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس کو غم یاد دلاؤ تو وہ حرکت میں آئے گا)

❀ الحَرَکَةُ بَرَکَةٌ: حرکت میں برکت ہے۔

❀ الحَزْمُ حِفْظُ مَاوُلِّیتَ وتركُ ما کُفِیتَ: احتیاط یہ ہے کہ تو اس چیز کو محفوظ رکھے جو تیرے سپرد کی گئی ہے اور اس چیز کو چھوڑ دے جس کی ضرورت نہیں۔

❀ الحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ بالناس: احتیاط لوگوں کے ساتھ بدگمانی ہے۔

❀ اَحْزَمُ مِنَ الحِرْبَاءِ: گرگٹ سے زیادہ محتاط (کیونکہ جب گرگٹ درخت پر چڑھتا ہے تو جب تک دوسری ٹہنی نہ پکڑ لے پہلی کو نہیں چھوڑتا۔ حرباء میں الف تانیث کا نہیں بلکہ الحاقی ہے جیسے علباء میں)

❀ لَا یَحْزُنْكَ دَمٌ هَرَاقَهُ اَهْلُهُ: اس خون پر غم نہ کر جو اس کے اہل ہی نے بہایا ہے۔

❀ یَحْسَبُ المَمْطُوْرُ اَنَّ کُلًّا مُطِرَ: بارش میں بھیگا ہوا سمجھتا ہے کہ ہر شخص بارش میں بھیگا ہوگا۔

❀ لَا حَسَبَ کالتَّوَاضُعِ: تواضع جیسی کوئی شرافت نہیں۔

❁ حَسْبُكَ مِنْ غِنًى شِبَعٌ وَرِيٌّ: شکم سیری اور سیرابی تیرے لئے کافی دولتمندی ہے (یعنی اتنے مال پر قناعت کر جس سے تو پیٹ بھر کر کھا سکے اور پیاس بجھا سکے اور باقی جو بچے وہ سخاوت کر دے۔ یہ مثل امری القیس کی ہے۔

❁ حَسْبُكَ مِنْ شَرٍّ سَمَاعُهُ: شر کا سن لینا ہی تمہارے لئے کافی ہے۔ (اتنے پر اکتفاء کر خود دیکھنے کا ارادہ نہ کر)

❁ اَلْحَسَدُ مَطِيَّةُ التَّعَبِ: حسد مشقت کی سواری ہے۔

❁ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ طَابَ عَيْشُهُ: نیک گمان کرنے والا خوش گزران ہوتا ہے۔

❁ حَسَنٌ فِي كُلِّ عَيْنٍ مَاتَوَدُّ: ہر آنکھ میں اس کا محبوب ہی اچھا ہے۔ (یہ عربوں کے اس قول کے قریب ہے جس میں کہا گیا ہے۔ حُبُّكَ الشيَ يُعْمِيْ وَيُصِمّ اس کا مفہوم شروع میں ملاحظہ ہو)

❁ حُسْنُ الظَّنِّ وَرْطَةٌ: حسن ظن گہرا گڑھا ہے (ورطة کا معنی ہلاکت، ایسا معاملہ جس سے چھٹکارا مشکل ہو۔ یہ عربوں کے اس قول کے قریب ہے کہ اَلْحَزْمُ سوءُ الظن بالناس (احتیاط لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے)

❁ لِكُلِّ حَسَنٍ عَائِبٌ: ہر اچھے کو عیب دار بنانے والا بھی ہوتا ہے۔

❁ اَلْحَسَنَةُ بين السَّيِّئَتَيْن: نیکی دو برائیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ (درمیانے کام کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا کے معنی میں ہے۔ (یعنی بہترین کام وہ ہیں جو اعتدال سے کئے جائیں)

❁ أَحْسَنُ مِنَ الدُّنْيَا الْمُقْبِلَةِ: آنے والی دنیا سے زیادہ حسین۔

❁ أَحْسَنُ مِنَ النَّارِ: آگ سے زیادہ خوبصورت۔

❁ أَحْسَنُ مِنَ الطَّاؤُوس: مور سے زیادہ خوشنما۔

❁ أَحْسَنُ مِنْ زَمَنِ الْبَرَامِكَة: برمکیوں کے زمانہ سے زیادہ خوبصورت۔

❁ أَحْسَنُ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ: آفتاب و ماہتاب سے زیادہ خوبصورت۔

❁ اَلإِحْسَانُ يَقْطَعُ اللِّسَان: احسان زبان بند کر دیتا ہے۔

❁ أَحُشُّكَ وَتَرُوثُنِي: میں تو تجھے گھاس چراتا ہوں اور تو مجھ پر گوبر کرتا ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو احسان فراموشی کرے)

❁ أَحَشَفًا وَسُوءَ كِيْلَةٍ: کھجور بھی ردی اور پیمانہ بھی کم۔ (الكِيْلَة کیل سے اسم نوع ہے۔ حَشَف بمعنی ردی کھجور۔ یعنی تو ردی کھجور اور کم ناپنے جیسی دو برائیوں کا مرتکب ہے۔۔ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس میں دو ناپسندیدہ خصلتیں ہوں یا دو طرف سے ظلم کرے)۔

❁ اَلْحَصَاةُ مِنَ الْجَبَلِ: کنکری پہاڑ کا جزء ہے۔ (کند ہم جنس با ہم جنس پرواز)

❁ كُلٌّ يَحْتَطِبُ فِي حَبْلِهِ: ہر ایک اپنی رسی میں ہی لکڑیاں جمع کرتا ہے۔

❁ كَحَاطِبِ لَيْلٍ: رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح (اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو ہر چیز جمع کرتا چلا جائے اچھی بری نہ دیکھے۔ حَاطِب لکڑیاں جمع کرنے والے کو کہتے ہیں)

❁ حَظٌّ فِي السَّحَابِ وَعَقْلٌ فِي التُّرَاب: نصیب بادلوں میں اور عقل مٹی میں۔

❁ حَظٌّ جَزِيْلٌ بَيْنَ شِدْقَيْ ضَيْغَمِ: بڑا حصہ شیر کے جبڑوں میں۔ (اس پسندیدہ چیز کیلئے بولا جاتا ہے، جو نا قابل حصول ہو)

❁ إِلَّا حَظِيَّةً فَلَا أَلِيَّةً: عزت و رتبہ والی نہیں تو بھی کوتاہی کرنے والی نہ بن۔ (حَظِيَّة حُظْوة سے مشتق ہے بمعنی مرتبہ، عزت اور أَلِيَّة أَلْو سے لیا گیا ہے۔ بمعنی تقصیر (کوتاہی) مفہوم یہ ہے کہ اگر تو معزز و صاحب رتبہ نہ ہو تو کوتاہی کرنے والی بھی نہ ہو۔ اس عورت کے متعلق کہا گیا ہے جو اپنے خاوند کو محبوب نہ ہو تو بھی اسے چاہئے کہ اس سے محبت کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ مدارات یہ ہے کہ لوگوں کی مرادات کر کے اپنا مطلب نکالنا چاہئے)

❁ مَنْ حَفَرَ حَفِيرًا لأَخِيْهِ كَانَ حَتفُهُ فِيه: جو کوئی اپنے بھائی کیلئے گڑھا کھودتا ہے۔ اس کی موت اسی گڑھے میں ہوتی ہے۔

❁ مَنْ حَفَرَ حُفْرَةً وَقَعَ فيها: جو کوئی گڑھا کھودے خود اس میں گر جاتا ہے۔ مَنْ حَفَرَ مَغْوَاةً...... بھی منقول ہے۔ مَغْوَاة اس گڑھے کو کہتے ہیں جو بھیڑیے اور بجو کیلئے کھودا جاتا تھا۔ ہر جائے ہلاکت کو بھی مَغْوَاة کہا جاتا ہے

❁ تحفظُ أَخَاكَ الامِن نفسه: تو اپنے بھائی کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کے نفس سے نہیں۔ (مفہوم یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی لوگوں سے حفاظت کر سکتا ہے اگر وہ اس کے خلاف برا ارادہ رکھتے ہوں لیکن اگر وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، تو تو اس سے محفوظ رکھنے کے لئے کچھ نہیں کر سکتا)

❁ حَافِظْ عَلَى الصَّدِيقِ وَلَوْ فِي الْحَرِيقِ: دوست کی حفاظت کر خواہ آگ میں کودنا پڑے۔

❁ إِحْفَظْ مَافِي الوِعَاءِ بِشَدِّ الوِكَاء: جو کچھ برتن میں ہے اس کی حفاظت برتن کا منہ باندھ کر کر۔ (وکاء مشک وغیرہ کا بندھن احتیاط برتنے پر اکسانے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ أَحْفَظُ من الأَرْضِ: زمین سے زیادہ حفاظت کرنے والا۔

❁ الحَفِيظَةُ تُحَلِّلُ الأَحْقَاد: غیرت دشمنیاں ختم کر دیتی ہے۔ (حفيظة بمعنی غضب و غیرت اس کی جمع حَفَائِظ ہے، مفہوم یہ ہے کہ کسی دوست یا رشتہ دار پر ظلم ہوتے دیکھ کر غیرت جوش مارتی ہے۔ خواہ دل میں اس سے کینہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس معنی کا حامل عربوں کا یہ مقولہ ہے: عِنْدَ الشَّدَائِدِ تَذْهَبُ الأَحْقَادُ (مصائب کے وقت دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں)

❁ حَقٌّ يَضُرُّ خَيْرٌ من بَاطِلٍ يَسُرُّ: ضرر رساں حق مسرت بخش باطل

سے بہتر ہے۔

❁ اَلْحَقُّ خَیْرُ مَا یُقَال: کہنے کے لائق باتوں میں بہترین حق بات ہے۔

❁ اَلْحَقُّ مَغْضَبَةٌ: حق باعث غضب ہے۔ (ایسے شخص کے متعلق کہا جاتا ہے جس سے کسی معاملہ کے بارے میں سچ بولا جائے تو اسے غصہ آجائے)

❁ اَلْحَقُّ اَبْلَجُ وَالْبَاطِلُ لَجْلَجٌ: حق واضح اور روشن ہوتا ہے، جبکہ باطل گڈمڈ۔ (اَبْلَج واضح اور روشن کے معنی میں ہے جبکہ لجلج گڈمڈ، الجھا ہوا)

❁ هٰذَا اَحَقُّ مَنْزِلٍ بِتَرْكٍ: یہ چھوڑنے کے لئے نہایت مناسب مقام ہے (ہر ایسی چیز کے متعلق کہا جاتا ہے جو چھوڑ دینے کی مستحق ہو جیسے مرد، پڑوس وغیرہ)

❁ اَحْقَدُ مِنْ جَمَلٍ: اونٹ سے زیادہ کینہ توز (ہمارے ہاں اس کا متبادل شتر کینہ کا لفظ ہے)

❁ مَنْ حَقَرَ حَرَمَ: جس نے حقیر جانا محروم ہوا۔ (یعنی جسے حقیر جانے گا اسے اس کا حق نہ دے گا)

❁ اَحْقَرُ مِنَ التُّرَابِ: مٹی سے زیادہ حقیر۔

❁ مَا حَكَّ جِلْدَكَ مِثْلُ ظُفْرِكَ: تیری کھال کو تیرے ناخن کی طرح کوئی چیز نہیں کھجلا سکتی۔ (تجھ جیسا تیری ضرورت کو کوئی اور پورا نہیں کرتا دوسروں سے زیادہ اپنے پر اعتماد پر اکسانے کے بارے میں بولا جاتا ہے)

❁ اِذَا حَكَكْتُ قَرْحَةً اَدْمَيْتُهَا: جب کسی زخم کو کھجاتا ہوں اس سے خون نکال لیتا ہوں۔ (یعنی جب کسی مقصد کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے انتہاء تک پہنچا کر چھوڑتا ہوں۔

❁ تَحَكَّكَتِ الْعَقْرَبُ بِالْاَفْعٰی: بچھو سانپ کو تکلیف دینے پر تیار ہوا (یہ مثل اس شخص کے حق میں بولی جاتی ہے جو اپنے سے زیادہ طاقت ور سے مقابلہ کرے)

❁ اَحْكَمُ مِنْ لُقْمَانَ: لقمان سے زیادہ دانا۔

❁ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ: (حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ (یعنی مومن جہاں سے ملے دانائیاں اکٹھی کرنے کا بڑا خواہاں رہتا ہے اور انہیں حاصل کرلیتا ہے)

❁ اَحْكٰی مِنْ قِرْدٍ: بندر سے زیادہ نقل کرنے والا (کیونکہ بندر انسان کے افعال کی نقل کرتا ہے سوائے گویائی کے)

❁ اِذَا حَلَّتِ الْمَقَادِيْرُ بَطَلَتِ التَّدَابِيْر: تقدیر کے آگے تمام تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔

❁ اَحَلُّ مِنْ لَبَنِ الْاُمِّ: ماں کے دودھ سے زیادہ حلال۔

❁ حَلَبَ الدَّهْرَ اَشْطُرَهٗ: اس نے زمانہ کے تھنوں کو دوہا ہے۔ یہ حلب أشطرَ الناقة سے مستعار لیا گیا ہے۔ اونٹنی کے دو تھن آگے اور دو پیچھے ہوتے ہیں۔ انہیں خِلْفَین کہا جاتا ہے۔ ہر دو خلفین کو شطر کہتے ہیں۔ اُشْطُرَهٗ کا نصب بدل کی وجہ سے ہے یعنی کہنے والے نے حَلَبَ اشطرَ الدهرِ کہا ہے۔ مفہوم: اس نے زمانہ کے دونوں شطروں کو آزمایا ہے۔ یعنی خیر کو بھی اور شر کو بھی اور زمانے کے سرد و گرم دیکھے ہیں۔) اردو میں وہ سرد و گرم چشیدہ ہے، جاندیدہ ہے۔ وغیرہ)

❁ حَلَبْتُهَا بِالسَّاعِدِ الْاَشَدِّ: میں نے اسے طاقت ور کلائی سے دوہا (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو طاقت سے اپنا حق لے۔ ساعد معنی پہنچا، کلائی، بازو)

❁ اَحْلُبْ حَلَبًا لَكَ شَطْرُهٗ: اچھی طرح دوہو، تیرا بھی حصہ ہے۔ (طلب اور مطلوب میں مساوات پر اکسانے کے لئے بولا جاتا ہے۔ نیز ایسے شخص کے متعلق بھی کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھی کی کسی معاملہ میں مدد کرے، جس میں اس کا بھی حصہ ہو)

❁ هٰذَا حَلَبٌ لَكَ شَطْرُهٗ: اس دوہنے میں تیرا بھی حصہ ہے۔ (ایسے عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے جس میں فریقین کا نفع ہو۔

❁ حَلُوْبَةٌ تُثْمِلُ وَلَا تُصَرِّحُ: ایسی دودھ دینے والی اونٹنی جو جھاگ والا دودھ دیتی ہے، خالص دودھ نہیں دیتی۔ (حلوبة دودھیل اونٹنی۔ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بکثرت وعدے اور وعید کرے، لیکن ان کو پورا نہ کرے)

❁ لَسْتَ مِنْ اَحْلَاسِهَا: تو اس کے ساتھیوں سے نہیں ہے۔ (احلاس الخیل گھوڑوں والے جو گھوڑوں پر ہی سوار رہتے ہیں)

❁ حَلَقَتْ بِهٖ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ: عنقاء مغرب نے اس کا احاطہ کر لیا ہے (ایسی چیز کے لئے کہا جاتا ہے جس کے ملنے کی امید نہ ہو یعنی جو مایوس کن ہو۔ عنقاء ایک بڑے پرندے کو کہتے ہیں جو نام کے لحاظ سے تو معروف ہے، مگر جسم کے لحاظ سے انجانا ہے۔ اَغرب کا معنی انجانا ہونا ہے۔ اس پرندہ کو مغرب اسی لئے کہا جاتا ہے کہ لوگوں سے دور رہتا ہے۔ اس کی صفت مونث اس لئے نہیں لائی گئی کہ عنقاء ایسا اسم ہے جو مذکر و مونث دونوں کے لئے مستعمل ہے۔ صفت کے طور پر عنقاءُ مغربٌ اور اضافت کی صورت میں عنقاءُ مغربٍ کہا جاتا ہے)

❁ هُمْ كَالْحَلْقَةِ الْمُفْرَغَةِ لَا يُدْرٰى اَيْنَ طَرَفَاهَا: وہ ڈھلے ہوئے حلقہ کی طرح ہیں معلوم نہیں اس کے دونوں سرے کہاں ہیں۔ (یہ فاطمہ بنت الخرشب الانماریہ زیاد العبسی کی بیوی کا مقولہ ہے۔ اس کے سات بیٹے تھے اور شرفائے عرب میں شمار ہوتے تھے۔ ایک دن اس سے پوچھا گیا۔ آپ کو کونسا بیٹا سب سے افضل ہے؟ تو اس نے کہا: ربیع نہیں بلکہ عمار نہیں نہیں بلکہ فلاں، پھر بولی: میں انہیں گم کروں اگر مجھے معلوم ہو کہ ان میں سے کون سب سے افضل ہے۔ **هم كالحلقة المفرغة لا يُدْرٰى اَيْنَ طرفاها**)

❁ حِلْمِي اَصَمُّ وَاُذُنِي غَيْرُ صَمَّاءَ: میرا حلم بہرا ہے کان بہرے نہیں (یعنی میں اپنی بردباری کی وجہ سے فحش کلام سے احتراز کرتا ہوں

اگر چہ کانوں سے سن لیتا ہوں۔ یہ صابر اور بردبار کی مثال ہے)

أَحْلَمُ مِنَ الأَحْنَفِ: احنف سے زیادہ بردبار۔ (یہ احنف بن قیس کی طرف اشارہ ہے جو بنی تمیم سے تھا اور بردبار کہلاتا اور تسلیم کیا جاتا تھا)

الحَلِيمُ مَطِيَّةُ الجَهُولِ: بردبار جاہل کی سواری ہے (اس کا مطلب ہے کہ بردبار شخص جاہل کی جہالت برداشت کر لیتا ہے اس سے انتقام نہیں لیتا)۔

لا تَكُنْ حُلُوًا فَتُسْتَرَطَ ولا مُرًّا فَتُعْقِي: میٹھا نہ بن کہ نگل لیا جائے اور نہ کڑوا کہ اگل دیا جائے (استراط، نگلنا، اعقاء تلخی کی وجہ سے اگل دینا۔ مراد یہ ہے کہ کڑواہٹ میں حد سے تجاوز نہ کرو کہ پھینک دیئے جاؤ اور مٹھاس میں حد سے نہ بڑھو کہ نگل لیئے جاؤ۔ یعنی صورتوں میں میانہ روی اختیار کرو)

أَحْلَى مِنَ العسلِ: شہد سے زیادہ میٹھا۔

أَحْلَى مِنْ نَيْلِ المُنَى: حصول مراد سے زیادہ شیریں۔

أَحْلَى مِنْ حياةٍ مُعَادَة: دوبارہ زندگی سے زیادہ شیریں۔

الْحَمْدُ مَغْنَمٌ والمَذَمَّةُ مَغْرَمٌ: تعریف مال غنیمت ہے اور مذمت تاوان (تعریف کے اکتساب اور اس کے غیر سے اجتناب پر اکسانے کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ فائدہ پہنچا کر تعریف کرانا، فائدہ حاصل کرنا غنیمت پانا ہے اور قابل مذمت کام کیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یوں وہ مال جس سے تم نے تعریف کمائی تھی جاتا نہیں رہے گا اور تمہیں برائی سے بچائے گا)

كَانَ حِمَارًا فَاسْتَأْتَنَ: وہ گدھا تھا بعد میں گدھی بن گیا۔ (استاتن بمعنی گدھی ہو جانا ہے۔ اور ایسا ہوتا نہیں۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ قوی تھا پھر چاہا کہ کمزور ہو جائے، عزیز و غالب تھا بعد میں ذلیل ہو گیا۔

أَحْمَقُ مِنْ دُغَةَ: دغہ سے زیادہ بیوقوف (دغہ جو ایک عورت کا نام تھا اتنی بیوقوف تھی کہ اپنے بیٹے کے تالو کو ہلتا دیکھا، بیٹا سوتا کم اور روتا زیادہ تھا۔ اس نے اپنی سوت سے کہا مجھے چھری دینا سوت نے چھری دیدی اسے معلوم نہ تھا کہ بچے کی ماں کیا کرنا چاہتی ہے۔ بچے کی ماں نے جا کر چھری سے اپنے بیٹے کا تالو پھاڑ کر دماغ نکال دیا۔ سوت پیچھے سے آئی اور پوچھا۔ کیا کر رہی ہو؟ بچے کی ماں نے کہا: میں نے یہ پیپ اس کے سر سے نکال دی ہے تا کہ اسے نیند آ جائے اور اب وہ سویا ہوا ہے)

أَحْمَقُ مِنْ رِجْلَة: رجلہ سے زیادہ بیوقوف (رجلۃ خرفہ کے ساگ کو کہتے ہیں جو سیلابی نالوں میں اگتا ہے اور سیلاب اسے بہالے جاتا ہے)

أَحْمَقُ مِنْ شَرَنْبَثْ: شرنبث سے زیادہ احمق (شرنبث کی حماقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنا مال صحرا میں دفن کیا اور بدلی کے سائے کو نشانی مقرر کیا جو اس پر آیا ہوا تھا۔ جب مال نکالنے کے لئے لوٹا، سایہ وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ چنانچہ اسے وہ جگہ نہ ملی اور یوں اس نے مال کھو دیا)

أَحْمَقُ مِنْ عِجْلٍ: عجل سے زیادہ احمق (عجل بنی وائل کا ایک شخص تھا۔ اسے کہا گیا۔ تم نے اپنے گھوڑے کا کیا نام رکھا ہے؟ وہ اٹھ کر گیا اور گھوڑے کی آنکھ پھوڑ کر کہا میں نے اس کا نام اعور (کانا) رکھا ہے)

أَحْمَقُ مِنْ نَعَامَةَ: شتر مرغ سے زیادہ بیوقوف (شتر مرغ غذا کی تلاش میں نکلتا ہے۔ راستہ میں کہیں کسی دوسرے شتر مرغ کا انڈہ مل جائے تو اسے سینے بیٹھ جاتا ہے اور اپنا انڈہ بھول جاتا ہے اور واپس نہیں آتا جس کی وجہ سے وہ انڈہ خراب ہو جاتا ہے)

أَحْمَقُ مِنْ هَبَنَّقَةَ: ہبنقہ سے زیادہ احمق (ہبنقہ بنی قیس بن ثعلبہ کا ایک فرد تھا۔ اس کی ایک حماقت یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی بکریاں چراتا تھا۔ موٹی بکریوں کو دوب گھاس چراتا اور کمزور بکریوں کو اس سے دور رکھتا اسے کہا گیا، تجھ پر ہلاکت ہو کیا کر رہے ہو؟ ہبنقہ نے جواب دیا میں اسے خراب نہیں کرتا جسے اللہ نے ٹھیک کیا ہے اور نہ اسے ٹھیک کرتا ہوں جسے اللہ نے خراب کیا ہے۔ ایک اور حماقت یہ ہے کہ اس نے اپنی گردن میں گھونگھوں، ہڈیوں اور ٹھیکریوں کا ایک ہار ڈالا ہوا تھا۔ اس سے اس ہار کے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا۔ یہ ہار اس لئے پہنا ہے کہ اس کے ذریعے خود کو پہچان سکوں اور بھٹکوں نہیں۔ ایک رات سوتے میں اس کے بھائی نے اس کا ہار اتار کر خود پہن لیا۔ صبح ہوئی اور ہار کو اپنے بھائی کی گردن میں پڑا دیکھا تو کہا بھائی تو تو میں ہے تو میں کون ہوں؟

أَحْمَقُ مِنْ مَاضِغِ المَاءِ: پانی چبانے والے سے زیادہ احمق۔

أَحْمَقُ مِنَ القَابِضِ عَلَى المَاءِ: پانی کو پکڑنے والے سے زیادہ احمق۔

احمق من ناطح الماء: پانی کو سینگ مارنے والے سے زیادہ احمق۔

أَحْمَقُ مِنْ لَاطِمِ الأَرْضِ بِخَدَّيْهِ: اپنے رخساروں سے زمین کو تھپڑ مارنے والے سے زیادہ احمق۔

أَحْمَقُ مِنْ نَاطِحِ الصَّخْرِ: چٹان کو سینگ مارنے والے سے زیادہ احمق۔

يَحْمِلُ التَّمْرَ إِلَى البَصْرَة: کھجوریں بصرہ لے جاتا ہے (بصرہ تو کھجوروں کا گھر ہے۔ گویا "الٹے بانس بریلی کو" کا مصداق بنتا ہے)

لَا يُحَمِّلُ اللّٰهُ نَفْسًا غَيْرَ طَاقَتِهَا: اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔

لَمْ يَحْمِلْ خَاتَمِي مِثْلُ خِنْصَرِي: میری چھنگلیا کی طرح کسی نے میری انگوٹھی کو برداشت نہیں کیا (جس کا کام اسی کو ساجھے)

إِنَّمَا يُحْمَلُ الكَلُّ عَلَى أَهْلِ الفَضْلِ: بوجھ تو انہیں پر ڈالا جاتا ہے جو اسے اٹھا سکیں۔ (کل کا معنی بوجھ ہے)

يَا حَامِلَ اذْكُرْ حَلًّا: (اے لادنے والے کھولنا بھی یاد رکھنا۔ (اس کی اصل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سفر کی حالت میں کوچ کیا۔ جن رسیوں سے سامان باندھا ان کی گرہیں بہت سخت لگا دیں۔ منزل پر اترے تو

سامان کھولنے میں بہت دشواری پیش آئی۔ جب دوسری منزل کے لئے سامان لادنے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا۔ یا حامل اذکر حلا۔ یہ مثل عواقب پر نظر رکھنے کے لئے بولی جاتی ہے)

❁ أَحْمَلُ مِنَ الأَرْضِ: زمین سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا۔

❁ حَمِيَ فَحَاشُ مِرْجَلَةً: وہ گرم ہوا تو اس کی ہانڈی بھی ابل پڑی۔ (یعنی سخت غضبناک ہوا)

❁ يَحْمِي جَوَابِيَهُ نَقِيقُ الضِفْدِعِ: مینڈکوں کی ٹرٹر اس کے تالابوں کی حفاظت کرتی ہے۔ (جوابی، جابیۃ کی جمع ہے جابیۃ کا معنی حوض ہے۔ اس شخص کے لئے کہتے ہیں جس کے پلے کچھ نہ ہو سوائے باتوں اور بک بک کے)

❁ رُبَّ حَامٍ لِأَنْفِهِ وهو جادعُهُ: بہت سے لوگ جو اپنی ناک بچاتے ہیں دراصل اس کو کاٹنے والے ہوتے ہیں۔

❁ حِمَاكَ أَحْمَى لَكَ: تیرا اپنا دفاع ہی تیرا زیادہ محافظ ہے۔

❁ أَحْمَى مِن انف الأسد: شیر کی ناک سے زیادہ محفوظ۔

❁ أَحْمَى مِنْ مُجِيرِ الجَراد: ٹڈی کو پناہ دینے والے سے زیادہ محافظ (مدلج بن سوید الطائی ایک دن اپنے خیمہ میں اکیلا تھا۔ اچانک بنی طے کے کچھ لوگ آگئے ان کے پاس برتن تھے مدلج نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا تمہارے صحن میں ٹڈیاں اتری ہوئی ہیں، ہم انہیں لینے آئے ہیں، اس پر مدلج اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور نیزہ ہاتھ میں لے کر کہا: خدا کی قسم! تم میں سے کوئی ٹڈیوں سے کوئی واسطہ نہ رکھے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ اور ٹڈیوں کی رکھوالی کرتا رہا یہاں تک کہ دھوپ تیز ہونے پر ٹڈیاں اڑ گئیں تب کہا۔ اب ٹڈیوں کو پکڑ سکتے ہو کیونکہ وہ میرے پاس سے چلی گئی ہیں۔

❁ حَانِيَةٌ مُخْتَضِبَةٌ: ایک شفیق خضاب لگانے والی عورت (ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا تھا اس کا ایک بیٹا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی اور اپنے بیٹے پر متوجہ رہے گی۔ اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتی تو اسے یہ بات کہی گئی۔ یہ مثل ایسے شخص کے بارے میں بولی جاتی ہے جس کا معاملہ شک میں مبتلا کرتا ہو)

❁ الحاجَةُ تَفْتُقُ الحِيلَةَ: ضرورت حیلہ پیدا کر دیتی ہے (یعنی ضرورت پورا کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی حیلہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں محاورہ ہے۔ "ضرورت ایجاد کی ماں ہے")

❁ حَالَ الجَرِيضُ دُونَ القَرِيض: شعر کے آگے غم حائل ہو گیا۔ (جریض: غم۔ قریض: شعر۔ اصل اس کی یہ ہے کہ نعمان کے دو دن ایسے تھے جن میں سے ایک شدت اور دوسرا نعمت کا دن تھا۔ جو شخص شدت کے دن ملتا اسے قتل کروا دیتا اور جو نعمت کے دن ملتا اس کو مالدار بنا دیتا۔ ہوا یہ کہ شدت کے دن نعمان کو شاعر عبید بن الابرص جو اس کے خاص قدماء میں سے تھا ملنے آیا تو نعمان نے اس سے کہا۔ کاش تو ہمیں کسی اور دن ملنے آتا۔ لہٰذا اب تو اپنی جان کے علاوہ کوئی خواہش کر۔ شاعر نے کہا: کہ اپنی جان سے مجھے کوئی چیز عزیز نہیں۔ نعمان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے اپنے شعر سنانے کی فرمائش کر ڈالی۔ تو عبید شاعر نے کہا:

حال الجريضُ دو القريض اور یہ ضرب المثل بن گئی۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مثل کا اصل یہ ہے کہ ایک شخص کا بیٹا اچھے شعر کہتا تھا۔ باپ نے اس سے منع کیا۔ تو اس سے اس کے دل کو صدمہ ہوا، وہ بیمار پڑ گیا اور قریب المرگ ہو گیا تو اس کے والد نے اسے شعر کہنے کی اجازت دیدی۔ تو اس نے یہ مصرع کہا حال الجریض دون القریض۔ یہ مثل ایسے معاملہ کے لئے ہے جس پر آخر الامر قدرت حاصل ہو جب وہ کچھ سود مند نہ رہے)

❁ حَالَ الأَجَلُ دُونَ الأَمَلِ: امید کے سامنے موت حائل ہو گئی۔ (یہ پہلی مثل کے قریب قریب ہے)

❁ إن حَالَتِ القَوْسُ فَسَهْمِي صائِب: اگرچہ میری کمان ٹیڑھی ہے مگر میرا نشانہ خطا نہیں ہوتا (حالت القوس کا معنی کمان کا سیدنا نہ رہنا، جبکہ سہم صائب اس تیر کو کہتے ہیں جو نشانہ پر لگے اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کی دولت و نعمت نہ رہے مگر مروت باقی ہو۔

❁ رُبَّ حَالٍ أَفْصَحُ من لسانٍ: کئی دفعہ حال زبان سے زیادہ فصیح ہوتا ہے۔

❁ أَحْوَلُ مِن أَبِي قَلَمُون: ابوقلموں سے زیادہ بدلنے والا۔ ابوقلموں ایک قسم کا کپڑا جس کے رنگ آنکھوں جیسے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔

❁ أَحْوَلُ مِن أَبِي بَرَاقِش: ابو براقش سے زیادہ متلون (ابو براقش ایک پرندہ ہے جو ایک دن میں کئی مختلف رنگ بدلتا ہے)

❁ الحَاوِي لاينجُو من الحَيَّات: سانپ پر منتر پڑھنے والا سانپوں سے نہیں بچتا۔ (مراد جو سانپ پکڑتا ہو کبھی نہ کبھی ڈسا جاتا ہے)

❁ أَحْيَرُ مِنْ ضَبّ: گوہ سے زیادہ متحیر (کیونکہ گوہ جب اپنا بل چھوڑ کر جاتا ہے تو واپسی کا راستہ بھول جاتا ہے اور حیران ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ اپنا بل چھوڑ کر جانے لگتا ہے تو دروازے کے پاس پتھر رکھ دیتا ہے تاکہ اس سے راستہ پا لے۔ لیکن اگر شکاری پتھر کو وہاں سے ہٹا دے تو وہ اسے متحیر کر کے پکڑ لیتا ہے)

❁ حِيلَةُ مَنْ لاحِيلَةَ لَهُ الصبر: جس کا کوئی حیلہ نہ ہو اس کا حیلہ صبر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خود کو ناپسندیدہ بات دور کر کے فائدہ نہ پہنچا سکے وہ صبر تو کر سکتا ہے اور صبر کے ثواب اور اچھی بات میں اس کے لئے نفع کا اکتساب کر سکتا ہے)

❁ مَاحِيلَةُ الرَّامِي إذا انْقَطَعَ الوَتَرُ: جب تانت ہی ٹوٹ جائے تو تیرانداز کیا کر سکتا ہے۔

❁ إذا حَانَ القَضَاءُ ضَاقَ الفَضَاءُ: جب قضا آتی ہے تو فضا تنگ ہو جاتی ہے۔

❁ لاتُحْيِي البَيْضَ وَتَقْتُلِ الفِرَاخ: ایسا نہ کر کہ انڈے رہنے دے اور

چوزے مار ڈالے (یعنی چھوٹی چیز کی حفاظت کی قیمت پر بڑی چیز کو ضائع نہ کر)

❁ حَیَّاكَ مَنْ خَلا فُوهُ: تجھے خالی منہ والے نے سلام کیا۔ اس کی اصل یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا کہ ایک اور شخص اس کے پاس سے گزرا اور اسے سلام کیا۔ منہ میں خوراک کی وجہ سے وہ اس کا جواب نہ دے سکا تو اس نے یہ بات کہی۔ ساتھی سے بے توجہی کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ لاحَیٌّ فَیُرْجٰی ولا مَیِّتٌ فَیُنْسٰی: نہ زندہ ہے جس سے امید کی جائے اور نہ مردہ جس کو بھلایا جائے۔

❁ أَحْیا من فَتاةٍ: نوجوان عورت سے زیادہ حیادار۔

❁ أَحْیا مِنْ مُخَدَّرَة: پردہ نشین عورت سے زیادہ باحیا۔

❁ أَحْیا مِنْ هَدِیّ: دلہن سے زیادہ حیادار۔ ہدی: (جسے آراستہ کر کے شوہر کو دیا گیا ہو)

❁ أَحْیا مِنْ ضَبّ: گوہ سے زیادہ لمبی عمر والا یہاں أَحْیٰ حیاة سے معنی لمبی عمر والا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ گوہ کی عمر طویل ہوتی ہے۔

❁ اَلْحَیاءُ مِنَ الإیْمانِ: حیا ایمان کا جز ہے۔ (کیونکہ باحیاء شخص حیاء کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس کی طرف عربوں کا یہ قول اشارہ کرتا ہے۔

❁ إذا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ: جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔ غالباً فارسی میں اس سلسلہ میں کہا جاتا ہے۔ بے حیا باش وہر چہ می خواہی کن۔

خ

❁ إمَّا خَبَّتْ وإمَّا بَرَكَتْ: یا تیز دوڑی یا بیٹھ ہی گئی (خبب دوڑ کی ایک قسم یعنی تیز دوڑنا اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کبھی خیر میں حد سے تجاوز کرتا ہو اور کبھی برائی میں اور دونوں میں منزل پر پہنچ جائے۔

❁ أَخْبَرْتُهُ بِعُجَرِي وبُجَرِي: میں نے اس کو اپنے تمام رازوں کی اطلاع دیدی۔ (عجر بمعنی پیچ در پیچ رگیں اور بجر بمعنی پیٹ کی ایسی تمام رگیں۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے آپ اس پر بھروسہ اور اعتماد کی بناء پر اپنے تمام عیوب سے آگاہ کر دیں۔

❁ تُخْبِرُ عَنْ مَجْهُولِهِ مِرْآتُهُ: اس کا ظاہر اس کے باطن کی ترجمانی کرتا ہے۔

❁ یُخْبِرُكَ أَدْنَى الأَرْضِ عن أَقْصَاها: زمین کا ابتدائی حصہ اس کے انتہائی حصہ کی خبر دے رہا ہے۔ (یا قریبی حصہ دور کے حصہ کی)

❁ لَیْسَ الخَبَرُ كَالمُعَایَنَةِ: سنی ہوئی بات دیکھی جیسی نہیں۔

❁ عَلَى الخَبِیرِ سَقَطْتَ: جاننے والے کے پاس ہی پہنچے ہو (مراد یعنی اسی سے پوچھا ہے جو معاملہ سے بخوبی واقف ہے)

❁ یَخْبِطُ خَبْطَ عَشْواءَ: وہ اندھی اونٹنی کی طرح پاؤں مارتا ہے۔ (عشواء کمزور نظر اونٹنی یا اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جسے رات کو نظر نہ آتا ہو اور یوں وہ ہر چیز روند ڈالتی ہو اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو بے سوچے سمجھے کسی کام میں پڑ جائے یا کسی کام کو لاپرواہی سے کرے۔ اور انجام کا مطلق خیال نہ کرے۔

❁ أَخْبَطُ مِنْ حَاطِبِ لَیْلٍ: رات کو لکڑی جمع کرنے والے سے زیادہ بے راہ چلنے والا۔ (ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو جانے بغیر اس کی تعریف کرنے لگے۔ کیونکہ رات کو لکڑیاں جمع کرنے والا ہر چیز اکٹھی کر لیتا ہے اسے بھی جس کی ضرورت ہو اور اسے بھی جس کی ضرورت نہ ہو)

❁ أَخْتَلُ مِنَ الذِّئْبِ: بھیڑیئے سے زیادہ دھوکے باز۔ (ختل کا معنی دھوکا دینا ہے)

❁ مَنْ خَدَمَ الرِّجَالَ خُدِمَ: جس نے لوگوں کی خدمت کی اس کی خدمت کی گئی۔

❁ الخَاذِلُ أَخُو القَاتِلِ: جو مدد کرنا چھوڑ دے وہ ایک طرح سے بھائی کا قاتل ہے۔ یعنی ساتھی کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا اس کا قاتل ہوتا ہے)

❁ تُخْرِجُ المِقْدَحَةُ مَافِي قَعْرِ البُرْمَةِ: چمچہ وہی نکالتا ہے جو ہنڈیا کے پیندے میں ہو (مقدحة: چمچہ یا ڈوئی۔ برمة: پتھر کی ہانڈی)

❁ قَدْ یَخْرُجُ مِنَ الصدفِ غیرُ الدُّرِّ: کبھی سیپ سے موتی کے بجائے کچھ اور نکل آتا ہے۔

❁ لاتَخْرُجُ النَّفْسُ من الأَمَلِ حَتّی تَدْخُلَ فی الأَجَلِ: نفس امیدوں کے پھندے سے اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک موت کے چنگل میں نہ آ جائے۔

❁ دُونَهُ خَرْطُ القَتادِ: اس سے آسان تو خاردار درخت کے پتے ہاتھ سے سوتنا ہے (خرط: درخت کے پتے ہاتھ سے کھینچ کر اتارنا کے معنی میں ہے۔ اور قتاد: سوئی جیسے کانٹوں والا درخت۔ ایسے کام کے لئے کہا جاتا ہے جس کے آگے رکاوٹیں ہوں۔

❁ الخَرُوفُ یَتَقَلَّبُ عَلَى الصُّوف: بھیڑ کا بچہ اون پر کروٹیں لیتا ہے۔ (ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو آرام سے زندگی بسر کر رہا ہو)

❁ أَخْرَقُ مِنْ نَاكِثَةِ غَزْلِها: سوت توڑنے والی سے زیادہ احمق۔ (قریش کی ایک عورت جو خود بھی کاتتی اور اپنی کنیزوں سے سوت کتواتی تھی پھر خود ہی کاتا ہوا سوت توڑ ڈالتی اور کنیزوں سے بھی ان کے کاتے ہوئے سوت تڑوا دیتی تھی)۔

❁ خَرْقاءُ ذاتُ نِیْقَةٍ: پھوڑ گھمڑ بننے والی (خرقاء اس عورت کو کہتے ہیں جو کوئی کام اچھی طرح نہ کر سکے۔ نِیْقَة تَنَوَّقَ سے اسم نوع ہے۔ کہا جاتا ہے تَنَوَّقَ فی الامر یعنی اس نے کام کو مضبوطی اور حکمت سے سرانجام دیا۔ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے آتا جاتا کچھ نہ ہو لیکن دعویٰ کرے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔

❁ خَرْقاءُ عَیّابَةٌ: پھوہڑ عیب نکالنے والی (یعنی خود کچھ کرنا آتا نہیں مگر

دوسروں میں کیڑے نکالتا ہے)

❁ أَخْسَرُ مِنَ الْقَابِضِ عَلَى الْمَاءِ: پانی کو پکڑنے والے سے زیادہ نقصان اٹھانے والا۔

❁ مَنْ خَشِيَ الذِّئْبَ اَعَدَّ كَلْبًا: جو بھیڑیے سے ڈرے، کتا تیار کرے۔ (دشمنوں کے لئے تیاری کرنے کی ترغیب کے بارے میں ہے)

❁ لاتُخَاصِمْ مَنْ إِذَا قَالَ فَعَلَ: اس سے جھگڑا نہ کرنا جو جب کچھ کہے تو اس کو کر ڈالے۔

❁ إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنْ: کوڑے پر اگی ہوئی سبزی سے بچو۔ (دمن مینگنیوں اور پیشاب والی جگہ) جن پر بسا اوقات خوبصورت سبزہ آگ آتا ہے تو دیکھنے میں وہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن اگنے کی جگہ کے لحاظ سے خراب۔ یہ مثل ظاہری حسن سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے جس کا باطن خراب ہو)

❁ الْخَطَأُ زَادُ الْعَجُولِ: خطا جلد بازی کرنے والے کی زاد راہ ہے (یعنی جلد بازی کرنے والا غلطیاں ساتھ لے کر چلتا ہے)

❁ مَعَ الْخَوَاطِئِ سَهْمٌ صَائِبٌ: خطا کرنے والے تیروں کے ساتھ نشانہ پر لگنے والا تیر بھی ہوتا ہے۔ (اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو بار ہا غلطیاں کرتا ہے اور ایک مرتبہ ٹھیک کام کرلے۔ خواطئی ان تیروں کو کہا جاتا ہے جو نشانہ خطا کریں)

❁ مَنْ خَطَبَ الْحَسْنَاءَ يُعْطِي مَهْرَهَا: جو حسینہ کو منگنی کا پیغام بھیجے، اس کا مہر بھی ادا کرے گا۔

❁ أَخْطَبُ مِنْ سَحْبَانَ وَائِلٍ: سحبان وائل سے زیادہ خطیب۔ (سحبان وائل باہلہ قبیلے کے خطیبوں اور شاعروں میں سے ایک کا نام)

❁ لِكُلِّ خِطَابٍ جَوَابٌ: ہر بات، سوال کا جواب ہوتا ہے۔

❁ لَيْسَ الْمُخَاطِرُ مَحْمُودًا ولو سَلِمًا: خطرہ مول لینے والا قابل تعریف نہیں ہوتا، چاہے بچ جائے۔

❁ خَفَّتْ نَعَامَتُهُمْ: ان کا شتر مرغ ہلکا ہوگیا (شَالَتْ نَعَامَتُهم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی گروہ چشمہ سے کوچ کر کے بکھر جائے۔ شتر مرغ کی صفت ہلکا پن، تیز جانا اور بھاگنا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نعامۃ کا معنی قومی کی ایک جماعت ہے۔)

❁ خَفِّفْ طَعَامَكَ تَأْمَنْ سَقَامَكَ: ہلکا کھانا کھاؤ گے تو بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ (لفظی ترجمہ اپنا کھانا ہلکا کر، بیمار ہونے سے بچارہ)

❁ أَخَفُّ حِلْمًا مِنْ عُصْفُورٍ: چڑیا سے بھی بڑھ کر جلدی طیش میں آنے والا۔

❁ أَخَفُّ مِنْ يَرَاعَةٍ: نرکل سے زیادہ ہلکا۔

❁ أَخَفُّ مِنْ رِيشَةٍ: پر سے زیادہ ہلکا۔

❁ أَخَفُّ مِنَ النَّسِيمِ: بادنسیم سے زیادہ ہلکا۔

❁ أَخَفُّ مِنَ الْهَبَاءِ: غبار سے زیادہ ہلکا۔

❁ وَهَلْ يُخْفَى عَلَى النَّاسِ الْقَمَرُ: کیا چاند بھی لوگوں پر مخفی رہتا ہے؟ (ایسی چیز یا معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جو مشہور ہو۔)

❁ مَا عِنْدَهُ خَلٌّ وَلاخَمْرٌ: اس کے پاس نہ سرکہ ہے نہ شراب۔ (یعنی خیر یا شر میں سے اس کے پاس کچھ نہیں)

❁ مَا انْتَ بِخَلٍّ وَلاخَمْرٍ: تو نہ تو سرکہ ہے نہ شراب (کچھ عرب شراب کو اس کی لذت کی وجہ سے خیر اور کھٹاس کی وجہ سے سرکہ کو شر قرار دیتے تھے اس لئے بھی کہ سرکہ پیا نہیں جا سکتا)

❁ الْخَلَّةُ تدعو اِلَى السَّلَّةِ: مفلسی چوری کی دعوت دیتی ہے۔ (خلّۃ بمعنی افلاس اور ضرورت اور سلّۃ معنی چوری ہے۔ یعنی افلاس ذلیل کمائی کی دعوت دیتا ہے۔)

❁ تَخَلَّصَتْ قَائِبَةٌ مِنْ قُوبٍ: انڈا چوزے سے چھٹکارا حاصل کر چکا ہے۔ (قائبۃ کا معنی انڈا اور قوب کا معنی چوزا۔ سختی سے نجات پانے پر کہا جاتا ہے۔ اس مثل کی اصل یہ ہے کہ ایک دیہاتی نے کسی تاجر کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا جب میں تجھے فلاں جگہ پہنچا دوں تو (برئت قائبۃ من قوب) انڈا چوزے بری ہو جائے گا۔ یعنی میں تیری حفاظت کی ذمہ داری سے بری ہو جاؤں گا)

❁ إِخْتَلَطَ الْحَابِلُ بِالنَّابِلِ: جال والا تیر والے کے ساتھ خلط ملط ہو گیا۔ (حابل بمعنی جال والا اور نابل بمعنی تیر والا ہے۔ بہت سے شکاری اکٹھے ہو جائیں اور تیرے والے جال والوں میں گھل مل جائیں، تو کسی چیز کو شکار نہیں کیا جا سکتا۔ شکار تو انفرادی طور پر ہوتا ہے یہ مثل لوگوں کے معاملہ کے اس طرح گڑ بڑ ہو جانے کے موقع پر بولی جاتی ہے۔ کیونکہ ایسی گڑ بڑ پر کوئی تدبیر نہیں سوجھتی)۔

❁ إِخْتَلَطَ الْخَاثِرُ بِالزُّبَّادِ: گاڑھا دودھ خراب دودھ سے مل گیا۔ (خاثر بمعنی گاڑھا دودھ اور زبّاد خراب دودھ کے معنی میں ہے۔ ایسی قوم کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی معاملہ کی گڑبڑ میں پھنس کر رہ جائے)

❁ إِخْتَلَطَ الْمَرْعِيُّ بِالْهَمَلِ: چرایا ہوا اور چھوڑا ہوا اونٹ گڈمڈ ہو گئے۔ (هَمَل وہ اونٹ جو کسی چرانے والے کے بغیر رات دن چھٹا رہے اور مرعی اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو چرایا جاتا ہے۔ گڑ بڑ معاملہ میں پھنس جانے والے کے لئے کہا جاتا ہے۔)

❁ خَالِفْ نَفْسَكَ تَسْتَرِحْ: اپنے نفس کی مخالفت کر راحت پائے گا۔

❁ خَالِفْ هَوَاكَ تَرْشُدْ: اپنی خواہش کے خلاف کر ہدایت پا۔

❁ خَالِفْ تُذْكَرْ: مخالفت کرتا کہ تیرا ذکر کیا جائے۔

❁ أَخْلَفُ مِن عُرْقُوبٍ: عُرقُوب سے زیادہ وعدہ خلاف۔ عرقوب عمالقہ میں سے ایک شخص کا نام جس کے بھائی نے اس سے سوال کیا تو مختلف وعدے کر کے ٹالتا رہا اور آخری وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ پہلے کہا کھجوریں نکلیں گی تو دوں گا، جب نکل آئیں تو کچرے ہونے کا جب کچری ہوئیں تو گدرانے کا) گدرائیں تو پکنے، پکیں تو خشک ہونے اور چھوہارے ہونے تک وعدے ٹالتا رہا۔ اور چھوہارے ہوئیں تو کاٹ کر گھر لے گیا اور بھائی کو کچھ نہیں دیا اور یہ واقعہ وعدہ خلافی میں ضرب

المثل بن گیا۔

❁ أَخْلَفُ مِنْ نَارِ الحُبَاحِب: جگنو کی آگ سے زیادہ وعدہ خلاف (جو اندھیرے میں اڑے تو پر سرخ ہو جاتے ہیں اور پر دور سے آگ کا شعلہ دکھائی دیتا ہے۔

❁ خَلَقَ اللّٰهُ لِلْحُرُوبِ رِجَالاً: اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لئے اور ہی مرد پیدا کئے ہیں۔

❁ خَلَالَكِ الجَوُّ فَبِيْضِي واصْفِرِي: تیرے لئے میدان خالی ہو گیا اب انڈے دے اور چہچہا۔ یہ حاجت پوری کرنے میں کامیاب ہونے کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات شاعر طرفہ ابن العبد نے کہی تھی۔ اس نے چنڈول کے شکار کے لئے جال لگایا اور تمام دن گزرنے کے باوجود کچھ شکار نہ کر سکا۔ پھر جال اٹھایا اور دور چلا گیا۔ اور وہاں سے دیکھا کہ چنڈول اس کے بکھیرے ہوئے دانے چگ رہے ہیں۔ اس موقع پر اس نے کہا:

یا لَكِ من قُنْبُرَة بمعمر

خلالكِ الجوّ فبيضي و اصفری

❁ لَا يَخْلُو الْمَرْءُ مِنْ وُدُودٍ يَمْدَحُ وعُدوٍّ يَقْدَحُ: کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی تعریف کرنے والے دوست اور برائی کرنے والے دشمن سے خالی ہو۔

❁ خَلِّ مَنْ قَلَّ خيرُهُ، لَكَ فِي النَّاسِ غيرُهُ: اس شخص کو چھوڑ جس میں بھلائی نہ ہو، لوگوں میں تجھے اس کے علاوہ اور مل جائیں گے۔

❁ خَلِّ الحسابَ ليومِ الحساب: حساب کو روز حساب کے لئے چھوڑ دے۔

❁ خَلَاؤُكَ أَقْنَى لِحَيَائِكَ: تیری تنہائی تیری زندگی کے لئے زیادہ ضروری ہے (یعنی جب تم اپنے گھر میں تنہا ہوتے ہو تو لوگوں سے بچے رہتے ہو کیونکہ نہ تو تم کسی سے جھگڑ رہے ہوتے ہو اور نہ کوئی تم سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے۔ یوں تمہاری حیاء قائم رہتی ہے۔ یہ لوگوں کی صحبت کی مذمت میں کہا جاتا ہے)

❁ مَنْ لَا يَخَافُ أَحَدًا لَا يخافُهُ أَحَدٌ: جو کسی سے نہیں ڈرتا اس سے بھی کوئی نہیں ڈرتا۔

❁ مَنْ خَانَ هَانَ: جس نے خیانت کی ذلیل ہوا۔

❁ يارُبَّمَا خَانَ النَّصِيحُ المُؤْتَمَنُ: کبھی امانت دار خیر خواہ بھی خیانت کر دیتا ہے۔ (زمانہ کے لوگوں پر اعتماد نہ کرنے کی ترغیب کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ أَخْيَبُ مِنْ قَابِضٍ على الماء: پانی کو مٹھی میں پکڑنے والے سے زیادہ ناکام

❁ أَخْيَبُ مِنْ حُنَيْنٍ: حنین سے زیادہ ناکام کہا جات ہے (رَجَعَ بِخُفَّي حنين) یعنی ناکام واپسی کے موقع پر بولا جاتا ہے۔

❁ لو خُيِّرْتِ لَاخْتَرْتِ: اگر تجھے اختیار دیا جاتا تو اختیار کر لیتی (چونکہ اختیار نہیں اس لئے بجز تسلیم کوئی چارہ نہیں)

❁ خَيْرُ الأُمُورِ أَوْسَاطُهَا: سب معاملوں میں بہترین وہ ہیں جو میانہ روی پر مبنی ہوں۔

❁ خَيْرُ الأُمُورِ مااَسْعَدَكَ في دَارَيْكَ: بہترین کام وہی ہے جو تمہیں دونوں جہانوں میں نیک بخت بنا دے۔

❁ خَيْرُ الأُمُورِ أَحْمَدُهَا مَغَبَّةً: بہترین کام وہ ہے جس کی انجام پر تعریف کی جائے۔ (مَغَبَّة بمعنی عاقبت، انجام، یہ عربوں کے اس قول کے مانند ہے۔ الأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا (اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے)

❁ خَيْرَ إِنَائَيْكَ تَكْفَئِين: تو اپنے بہترین برتنوں کو الٹ رہی ہے۔ (كَفَأَ الإِنَاءَ کا معنی برتن کو الٹ دینا، اوندھا کر دینا ہے یعنی مستحق محروم اور غیر مستحق فیضیاب ہو رہے ہیں۔

❁ خَيْرُ أَهْلِكَ مَنْ كَفَاكَ: تیرا بہترین رشتہ دار وہ ہے جو تیرے لئے کافی ہو جائے۔

❁ خَيْرُ البُيُوعِ نَاجِزٌ بِنَاجِزٍ: بہترین خرید و فروخت نقد النقدی ہے۔

❁ خَيْرَ حَالِبَيْكِ تَنْطَحِينَ: تو اپنے بہترین دوہنے والے کو سینگ مارتی ہے۔ (اصل اس مثل کی ہے کہ ایک بکری یا گائے کے دو دوہنے والے تھے۔ ایک دوسرے سے زیادہ نرم تھا۔ وہ نرم دوہنے والے کو سینگ مارتی تھی اور دوسرے کو چھوڑ دیتی تھی۔ اچھا سلوک کرنے والے کو برا بدلہ دینے والے کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ خَيْرُ الخِلَالِ حِفْظُ اللِّسَانِ: بہترین خصلت زبان کی حفاظت کرنا ہے۔

❁ خَيْرُ سِلَاحِ المَرْءِ مَاوَقَاهُ: آدمی کا بہترین ہتھیار وہ ہے جو اس کو بچائے (یعنی آدمی کی اولاد اور اس کے اہل خانہ میں سے اچھا وہ ہے جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں دوسرے سے بے نیاز کر دے)

❁ خَيْرُ الأَصْحَابِ مَنْ دَلَّكَ عَلَى الخَيْرِ: بہترین ساتھی وہ ہے جو خیر کی طرف تیری رہنمائی کرے۔

❁ خَيْرُ العَفْوِ مَاكَانَ عِنْدَ القُدْرَةِ: بہترین معافی وہ ہے جو قدرت حاصل ہوتے ہوئے دی جائے)

❁ خَيْرُ العِلْمِ ماحَضَرَكَ: بہترین علم وہ ہے جو (بوقت ضرورت) تیرے دل میں آ جائے۔

❁ خَيْرُ الغِنَى القُنُوعُ: بہترین تمول قناعت ہے۔

❁ خَيْرُ الكَلَامِ مَاقَلَّ ودَلَّ: بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مراد کو ظاہر کرنے والا ہو۔

❁ خَيْرُ المَالِ مَا نَفَعَ: بہترین مال وہ ہے جو نفع دے۔

❁ خَيْرُ مَالِكَ مَانَفَعَكَ: تیرا بہترین مال وہ ہے جو تجھے نفع پہنچائے۔ (معنی میں اس سے قریب لَمْ يَضِعْ مِنْ مَالِكَ مَاوَعَظَكَ (تیرا وہ مال ضائع نہیں گیا جس نے تیری خیر خواہی کی) ہے۔

❁ خَيْرٌ من الخَيْرِ فَاعِلُهُ: اچھوں میں اچھا وہ ہے جو اچھے کام کرے۔

❁ خَیۡرُ النَّاسِ مَنۡ فَرِحَ للناس بالخیر: بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی سے خوش ہو۔

❁ خَیۡرُ الۡوَعۡظِ مَا رَدَعَ: بہترین نصیحت وہ ہے جو برائی سے باز رکھے۔

❁ اَلۡخَیۡرُ اَبۡقَی وَاِنۡ طَالَ الزَّمَانُ بِهٖ: بھلائی زیادہ پائیدار ہے خواہ زمانہ کتنا ہی دراز کیوں نہ ہو۔

❁ اِنَّ خَیۡرَ الۡفِقۡهِ مَاحَضَرۡتَ بِهٖ: بہترین علم وہ ہے جو توُ وقت پر پیش کر سکے۔

❁ لَاخَیۡرَ فِیۡ اَرَبٍ اَلۡقَاكَ فِی لَهَبٍ: اس مقصد میں کوئی خوبی نہیں جو تجھے آگ کے شعلوں میں پھینک دے۔

❁ لَاخَیۡرَ فِی السَّرَفِ وَلَا سَرَفَ فِی الخیر: اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور نہ بھلائی میں کوئی اسراف ہے۔

❁ لَاخَیۡرَ فِیۡ وُدٍّ یَکُوۡنُ بِشَافِعٍ: ایسی محبت میں کوئی خیر وخوبی نہیں جو کسی سفارش کرنے والے کے ذریعے ہو۔

❁ اَلۡخَیۡلُ تَجۡرِی علی مَسَاوِیۡهَا: گھوڑا اپنے عیبوں کے باوجود چلتا ہے۔(یعنی اگر گھوڑے میں کچھ عیوب ہوں تو اس کی فیاضی اسے دوڑنے پر اکساتی ہے۔ اسی طرح شریف اور فیاض شخص تکلیف برداشت کرتا ہے اور خاندان کی حفاظت کرتا ہے خواہ کمزور کیوں نہ ہو۔ یہ مثل ہر حال میں فیاضی پر کہی جاتی ہے۔

❁ اَلۡخَیۡلُ اَعۡلَمُ بِفُرۡسَانِهَا: گھوڑے اپنے سواروں کو خوب جانتے ہیں(مثل سے مراد یہ ہے کہ معاملہ شناس پر اکتفا کرو)

❁ اخیل مِنۡ غُرَابٍ: کوے سے زیادہ اترانے والا(کوا اکڑ کر چلتا ہے)

❁ اَخۡبَلُ مِنۡ دِیۡكٍ: مرغ سے زیادہ ناز دکھانے والا۔

د

❁ دَأۡمَاءُ لَا یُقۡطَعُ بِالۡاَرۡمَاثِ: سمندر لکڑیوں کے بیڑے سے طے نہیں کیا جا سکتا۔(دأماء بمعنی سمندر اور أرماث رَمَث کی جمع ہے۔ارماث لکڑی کے گٹھوں کو جوڑ کر بنایا ہوا بیڑہ جو سمندر میں شکار وغیرہ کے کام آتا ہے۔ایسے عظیم کام کے لئے کہا جاتا ہے جس کو سرانجام دینے کے لئے مددگاروں اور موزوں سامان کی ضرورت ہو۔

❁ اَدۡبَرَ غُرَیۡرُهٗ وَاَقۡبَلَ هُرَیۡرُهٗ: اس کی اچھی عادت نے پیٹھ پھیر لی اور بد خلقی سامنے آگئی(غریر بمعنی اچھی عادت اور هریر بمعنی کراہیت و بدخلقی ہے۔یعنی اس کی اچھی بات جاتی رہی اور بدخلقی وغیرہ کی ناپسندیدہ عادتیں آگئیں)

❁ التَّدۡبِیۡرُ نِصۡفُ الۡمَعِیۡشَةِ: تدبیر آدھی روزی ہے۔

❁ کَدَابِغَةٍ وَقَدۡ حَلِمَ الۡاَدِیۡمُ: کھال رنگنے والے کی طرح جب کھال خراب ہوگئی ہو۔(حَلِمَ الجلدُ کا معنی ہے کھال کا خراب ہونا اور اس میں کیڑے پڑ کر سوراخ ہو جانا۔ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی معاملہ کی اصلاح کی اس وقت کوشش کرے جب وہ اسقدر خراب ہو چکا ہو کہ اصلاح کی امید نہ رہی ہو۔

❁ دَخَلَ فُضُوۡلِیٌّ النارَ فقالَ الحطبُ رَطۡبٌ: دو شخصوں کے معاملہ میں خود بخود دخل دینے والے نے آگ میں گھس کر کہا ایندھن گیلا ہے۔

❁ یُدۡخِلُ شَعۡبَانَ فِی رَمَضَانَ: وہ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے میں داخل کر رہا ہے۔(ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے، جو کوتاہی کرے)

❁ لَاتَدۡخُلۡ بَیۡنَ الۡبَصَلَةِ وَقِشۡرِهَا: پیاز اور اس کے چھلکے کے درمیان نہ گھسو(خواہ مخواہ مداخلت نہ کرو)

❁ لَاتَدۡخُلَنَّ بَیۡنَ الۡعَصَا ولحائها: ڈنڈے اور اس کی چھال کے درمیان ہرگز داخل نہ ہو۔(لحاء درخت یا لکڑی کی چھال مراد دو دوستوں کے مابین برائی لیکر جانا اچھا نہیں۔)

❁ لِکُلِّ دَرٍّ حَالِبٌ: ہر دودھ کا کوئی نہ کوئی دوہنے والا ہوتا ہے۔

❁ اِدۡرَهَا وَاِنۡ اَبَتۡ: اس کو دھولے خواہ وہ انکار کرے۔(یہ اس اونٹنی کے لئے کہا جاتا ہے جو رانیں باندھے بغیر دودھ دوہنے نہ دیتی ہو۔مراد یہ ہے کہ ضرورت یا بھلائی کو بہ اصرار و اکراہ حاصل کر لینا چاہئے)۔

❁ دَرۡءُ الۡمَفَاسِدِ اَوۡلٰی من جَلۡبِ النِّعَمِ: مفاسد کو دور کرنا نعمتیں حاصل کرنے سے بہتر ہے۔

❁ یَدۡرُجُ فِی کُلِّ وَکۡرٍ: وہ چڑھ کر ہر گھونسلے تک پہنچ جاتا ہے(یعنی وہ ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے)

❁ الدَّرَاهِمُ مَرَاهِمُ: روپے مرہم کا کام کرتے ہیں۔

❁ الدَّرَاهِمُ اَرۡوَاحٌ تَسِیۡلُ: روپے بہتی ہوئی روحیں ہیں۔

❁ مَنۡ لَمۡ یُدَارِ الۡمِشۡطَ یَنۡتِفۡ لِحۡیَتَهٗ: جو شخص کنگھی نرمی سے استعمال نہیں کرتا وہ اپنی ہی داڑھی کے بال اکھاڑتا ہے۔

❁ لَا یُدۡعٰی لِلۡجُلّٰی اِلَّا اَخُوۡهَا: بڑے معاملہ کے لئے اس کا ماہر ہی بلایا جاتا ہے۔

❁ اُدۡعُ اِلٰی طِعَانِكَ مَنۡ تَدۡعُوۡهُ اِلٰی جِفَانِكَ: اپنی نیزہ بازی کے لئے اسی کو بلاؤ جس کو اپنے پیالے کی دعوت دیتے ہو۔(یعنی اپنی مدد پر اسی سے کام لو جس پر احسان کیا ہو)

❁ اِدۡفَعِ الشَّرَّ بِعُوۡدٍ اوعَمُوۡدٍ: برائی کو لکڑی یا لوہے کی سلاخ سے دور کرے۔

❁ اَدَقُّ مِنَ الۡهَبَاءِ: غبار سے زیادہ باریک۔

❁ اَدَقُّ مِنَ الۡکُحۡلِ: سرمہ سے زیادہ باریک۔

❁ اَدَقُّ مِنَ الدَّقِیۡقِ: آٹے سے زیادہ باریک۔

❁ اَدَقُّ مِنۡ حَدِّ السَّیۡفِ: تلوار کی دھار سے زیادہ باریک۔

❁ دَلَّ عَلٰی عَاقِلٍ اِخۡتِیَارُهٗ: عقلمندی کا انتخاب عقل مندی کو ظاہر کرتا ہے۔

❁ الدَّالُّ عَلَی الۡخَیۡرِ کَفَاعِلِهٖ: نیکی کا راستہ بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔

❁ دَلِيلُ عَقْلِ الْمَرْءِ فِعْلُهُ وَدَلِيلُ عِلْمِهِ قَوْلُهُ: آدمی کی عقل کی دلیل اس کا عمل اور اس کے علم کی دلیل اس کا قول ہے۔

❁ لَيْسَ الدَّلْوُ إِلَّا بِالرِّشَاءِ: ڈول رسی کے بغیر کچھ نہیں۔ (ڈول کے ساتھ رسی نہ ہو تو وہ تمہارے لئے پانی کھینچ کر نہیں لاسکتا یہ مثل اس بارے میں ہے کہ آدمی کو قوت و ہمت اپنے رشتہ داروں سے ہی حاصل ہوتی ہے)

❁ دَمِّثْ لِجَنْبِكَ قَبْلَ النَّوْمِ مُضْطَجَعًا: لیٹ کر سونے سے پہلے اپنے پہلو کے کئے بستر نرم کرلو۔ (تَدْمِيث بمعنی نرم کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ حوادث ونوائب نازل ہونے سے پہلے تیاری کرلو)

❁ دَمْعَةٌ مِنْ عَوْرَاءَ غَنِيمَةٌ بَارِدَةٌ: کانی آنکھ سے ایک آنسو بھی بڑی غنیمت ہے۔ (عوراء سے مراد عین عوراء ہے۔ غنیمۃ باردہ بمعنی مشقت کے بغیر ملنے والی غنیمت ہے۔ ایسے بخیل کے لئے کہا جاتا ہے جس سے تھوڑا سا مل جائے)

❁ أَدْنَأُ مِنَ الشِّسْعِ: تسمے سے زیادہ حقیر۔ (شِسْع جوتے کا تسمہ)

❁ كُلُّ دَنِيٍّ دُونَهُ دَنِيٌّ: ہر قریب سے ورے کوئی نہ کوئی قریب ہوتا ہے۔ (یہاں دنی جو دنو سے فعل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے اور دانی یعنی قریب کے معنی میں ہے)

❁ أَدْنَى مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ: شہ رگ سے زیادہ قریب (حبل الورید گردن کی ایک رگ یعنی شہ رگ)

❁ دُنْيَاكَ مَا أَنْتَ فِيهِ: تیری دنیا وہ ہے جس میں تو موجود ہے۔

❁ الدَّهْرُ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ: زمانہ دو دن کا ہے، ایک دن تیرے نفع کا اور ایک تیرے نقصان کا۔

❁ لِكُلِّ دَهْرٍ رِجَالٌ: ہر زمانہ کے لئے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک عرب کا قول ہے کہ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ دَهْرٍ رِجَالٌ۔ یعنی ہر جگہ کے لئے ایک کلام اور ہر زمانہ کے لئے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔

❁ مَا الدَّهْرُ إِلَّا هٰكَذَا فَاصْبِرْ لَهُ: زمانہ تو ایسا ہی ہے لہٰذا صبر کرو۔

❁ يَدْهُنُ مِنْ قَارُورَةٍ فَارِغَةٍ: وہ خالی شیشی سے تیل مل رہا ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو وعدے کرے مگر انہیں پورا نہ کرے)

❁ بِهِ دَاءُ ظَبْيٍ: اسے ہرن کی بیماری ہے (یعنی کوئی بیماری نہیں ہے۔ جیسے ہرن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، کیونکہ عربوں کے خیال میں ہرن کبھی بیمار نہیں ہوتا)۔

❁ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ: ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے۔

❁ بينهم دَاءُ الضَّرَائِرِ: ان کے درمیان سوکنوں کی بیماری ہے۔ (ضرائر ضرة کی جمع ہے یعنی سوکن۔ لوگوں کے دلوں میں جڑیں پکڑ جانے والے حسد اور دشمنی کے لئے کہا جاتا ہے۔ سوکنوں کا حسد مشہور ہے اور ان کی ایک دوسرے سے دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور وہ ہر وقت جھگڑتی رہتی ہیں)

❁ دَاءُ الدَّهْرِ الصَّبْرُ عَلَيْهِ: زمانہ کی سختیوں کا علاج ان پر صبر کرنا ہے۔

❁ إِنَّ دَوَاءَ الشَّقِّ أَنْ تَحُوصَهُ: پھٹنے کی دوا یہ ہے کہ اسے ٹانکے لگا کر سی دیا جائے (حوص سینا کے معنی میں ہے اور پھٹی ہوئی چیز کو جوڑ دینا ہے)

❁ نِعْمَ الدَّوَاءُ الْأَزْمُ: بہترین دواء پرہیز ہے۔ (ازم پرہیز اور کھانے سے رک جانا کے معنی میں ہے)

❁ أَنَا دُونَ هٰذَا وَفَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ: میں اس سے تو کم ہوں مگر اس سے ضرور اوپر ہوں جو تیرے دل میں ہے (منافقانہ تعریف کرنے والے کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ: جیسا بدلہ دو گے ویسا ہی بدلہ دیئے جاؤ گے (یعنی جیسا کرو گے ویسا ہی تم سے کیا جائے گا۔ دِين بمعنی بدلہ ومحاسبہ ہے)

❁ الدِّينُ النَّصِيحَةُ: دین خیر خواہی کا نام ہے۔ (نصیحت دراصل لوگوں کو قریب کرنا اور تفریق کے باعث کو دور کرنا کے معنی میں ہے۔ کیونکہ نصح الثوب کے معنی کپڑے کو سینا ہے)

❁ الدِّينُ مِيسَمُ الْكِرَامِ: مکافات وجزاء شریفوں کی علامت ہے۔

ذ

❁ ذِئْبٌ إِسْتَنْعَجَ: بھیڑیا بھیڑ بن گیا۔

❁ الذِّئْبُ خَالِيًا أَسَدٌ: بھیڑیا خالی میدان میں شیر ہوتا ہے (جب بھیڑیا انسان کو تنہا پاتا ہے تو جرأت اور دلیری میں شیر بن جاتا ہے۔ ایک عرب کا مقولہ ہے کہ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الذِّئْبَ انما يصيب قاصية الغنم۔ یعنی جماعت سے منسلک رہو کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو پکڑتا ہے جو گلے سے دور ہو)

❁ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذِئْبًا أَكَلَتْهُ الذِّئَابُ: جو بھیڑیا نہ ہوگا اس کو بھیڑیئے کھا جائیں گے۔

❁ مَا الذُّبَابُ وَمَا مَرَقَتُهُ: کیا مکھی اور کیا اس کا شوربا (ایسے معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جسے کم قدر کیا جائے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے: کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا)

❁ الذِّبَّانُ يَعْرِفُ اللَّبَّانَ: مکھیاں دودھ پینے والے کے چہرے کو پہچانتی ہیں۔ (ذبان ذبابۃ کی جمع ہے بمعنی مکھیاں)

❁ إِذْخَارُ الرِّجَالِ أَوْلَى مِنْ إِدِّخَارِ الْمَالِ: مردوں کا ذخیرہ کرنا مال کے ذخیرہ کرنے سے بہتر ہے۔

❁ ذُقْهُ تَغْتَبِطْ: اسے چکھ شادمان ہو جائے گا۔ (اس کی اصل یہ ہے کہ کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک ایسا نہیں کر رہا تھا۔ تو شراب نوشی کرنے والوں نے اس سے کہا ذُقْهُ تَغْتَبِطْ شراب چکھے گا تو ہماری طرح خوشی سے جھومنے لگے گا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کوشش کرنے میں سستی کرنے کی وجہ سے محروم رہے)

❁ ذَكَّرْتَنِي الطَّعْنَ وَكُنْتُ نَاسِيًا: تو نے مجھے نیزہ یاد دلا دیا حالانکہ میں بھولا ہوا تھا (اس کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک دوسرے پر

اسے قتل کرنے کا لئے حملہ کیا، دوسرا شخص جس پر حملہ کیا گیا تھا دہشت اور گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ کے نیزے کو بھول گیا۔ حملہ کرنے والے نے اس سے کہا اپنا نیزہ پھینک دے تو اس نے جواب میں کہا۔ میرے پاس نیزہ ہے اور مجھے اس کا پتہ ہی نہیں۔ تو نے مجھے نیزہ یاد دلا دیا حالانکہ میں اسے بھولا ہوا تھا۔ اور یہ کہہ کر حملہ آور پر نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔۔ ایک چیز سے دوسری چیز یاد آ جانے کے بارے بولا جاتا ہے)

❁ اُذْكُرِ النِّعْمَةَ الْقَدِيمَةَ عَلَيْكَ وَانْسَ النِّعْمَةَ الْجَدِيْدَةَ لَكَ: تم اپنے اوپر پرانی نعمتوں کو یاد رکھو اور اپنے لئے نئی نعمتوں کو بھول جاؤ۔ (مراد پرانی نعمتوں پر شکر کرو اور نئی آسائشوں کے لئے حریص نہ بنو)

❁ اُذْكُرْ مَعَ كُلِّ نِعْمَةٍ زَوَالَهَا: ہر نعمت کے ساتھ اس کے زوال کو بھی یاد رکھو۔

❁ اُذْكُرْ غَائِباً يَقْتَرِبْ: غائب کا ذکر کرے گا تو وہ قریب آ جائے گا۔

❁ كُنْ ذَكُوْرًا إِذَا كُنْتَ كَذُوْبًا: تو بڑا جھوٹا ہو تو اچھے حافظہ والا ہو جا۔ (دروغ گو را حافظہ نہ باشد)

❁ ذَلَّ مَنْ لَا سَيْفَ لَهُ: وہ شخص ذلیل ہو جاتا ہے جس کے پاس تلوار نہ ہو۔

❁ لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ: جس پر لومڑیاں پیشاب کر گئیں وہ ذلیل ہو گیا۔ (اس کی اصل یہ ہے کہ ایک عرب کسی بت کو پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی آئی اور اس نے اس بت پر پیشاب کر دیا اس موقع پر اس نے کہا:

أَرَبٌّ يَبُوْلُ الثعلبان برأسِهِ
لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بالت عليه الثعالبُ

کیا وہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں؟ جس پر لومڑیاں پیشاب کر گئیں وہ ذلیل ہو گیا۔ اس شخص کے بارے کہا جاتا ہے جو حقیر و کمزور ہو اس پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس سے بچ نہ سکے)۔

❁ ذُلٌّ لَوْ أَجِدُ نَاصِرًا: یہ بڑی ذلت کی بات اگر مجھے مددگار مل جائے تو اس کو قبول نہیں کروں گا۔

❁ أَذَلُّ مِنْ بَيْضَةِ الْبَلَدِ: شترمرغ کے بیابان میں چھوڑے ہوئے انڈے سے زیادہ ذلیل (جس کے پاس وہ مڑ کر نہیں آتا (یہاں بلد سے مراد وہ ریتلی جگہ ہے جہاں شترمرغ انڈے دیتے ہیں)

❁ أَذَلُّ مِنَ النَّقَدِ: چھوٹی چھوٹی ٹانگوں اور بدصورت شکلوں والی بکریوں سے زیادہ ذلیل (جو بحرین میں پائی جاتی ہے۔ نقد اسم جنس ہے اس کا واحد نقدہ ہے)

❁ أَذَلُّ مِنْ وَتَدٍ: میخ سے زیادہ ذلیل۔ (کیونکہ وہ ہمیشہ ٹھونکی جاتی ہے)

❁ أَذَلُّ مِنَ النَّعْلِ: جوتے سے زیادہ ذلیل۔

❁ أَذَلُّ مِنَ الشِّسْعِ: تسمہ سے زیادہ ذلیل۔

❁ أَذَلُّ مِنَ الْبِسَاطِ: فرش سے زیادہ ذلیل۔ (جو بچھایا جاتا ہے اور ہر کوئی اس کو روندتا ہے)

❁ أَذَلُّ النَّاسِ مُعْتَذِرٌ إِلَى لَئِيمٍ: سب لوگوں سے ذلیل وہ ہے جو کمینہ سے معذرت خواہ ہو)

❁ إِنَّ الذَّلِيْلَ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ عَضُدٌ: درحقیقت ذلیل وہ ہے جس کا بازو نہ ہو (یعنی مددگار نہ ہوں)

❁ إِنَّ الذَّلِيْلَ مَنْ ذَلَّ فِي سُلْطَانِهِ: درحقیقت ذلیل وہ ہے جو طاقت اور اقتدار ہوتے ہوئے بھی ذلیل ہو جائے۔ (اور اس موقع پر بھی کمزوری دکھائے جہاں اس کے اختیار کے استعمال کرنے کی توقع ہو)

❁ لَا ذَنْبَ لِي قَدْ قُلْتُ لِلْقَوْمِ اسْتَقُوا: میرا کوئی گناہ نہیں میں تو لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ وہ پانی لے لیں۔ (معاملات سے بیزاری اور اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو نصیحت نہ مانے۔ یہ بات وہ شخص کہتا ہے جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہو مگر لوگ باز نہ آتے ہوں)

❁ مَاذَنْبِي يَدَاكَ أَوْكَتَا وَفُوْكَ نَفَخَ: میرا کوئی قصور نہیں، تیرے ہاتھوں نے اس کا منہ باندھا تھا اور تیرے ہی منہ نے ہوا بھری تھی۔ (أَوْكَى رأس السقاء کا معنی مشک کا منہ باندھنا۔ اس قصہ کی اصل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے خلیج عبور کرنے کا ارادہ کیا اور وہ اپنی مشکوں میں ہوا بھرنے لگے تا کہ ان کے ذریعے خلیج عبور کریں۔ ایک شخص نے پھونک بھی کم بھری اور مشک کا منہ بھی ڈھیلا بند کیا۔ جب وہ شخص خلیج کے وسط میں پہنچا تو مشک سے ہوا نکلنے لگی۔ یہاں تک کہ ساری ہوا نکل گئی اور اس شخص پر موت کی غشی طاری ہونے لگی تو اس نے ساتھیوں میں سے ایک کو پکار کہا۔ میں بر لب ہلاکت ہوں تو اس شخص نے کہا۔ ماذنبي، يداك اوكتا وفوك نفخ۔ یہ قول ہلاکت اور نقصان کے سبب سے بے زاری کے متعلق ضرب المثل بن گیا)

❁ ذَهَبَ أَمْسِ بِمَافِيْهِ: کل اپنے حالات کے ساتھ گزر گیا۔

❁ ذَهَبَ الْحِمَارُ يَطْلُبُ قَرْنَيْنِ فَعَادَ مَصْلُوْمَ الْأُذُنَيْنِ: گدھا سینگ لینے گیا کان کٹوا کر لوٹا (اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو اس چیز کا لالچ کرے جسے وہ حاصل نہ کر سکتا ہو اور الٹا اپنی چیز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے)

❁ ذَهَبَ دَمُهُ دَرَجَ الرِّيَاحِ أَوْ أَدْرَاجَ الرِّيَاحِ: اس کا خون رائیگاں گیا (یعنی قصاص نہ لیا جا سکا۔ ادراج درج کی جمع ہے درج الریاح ہوا کا راستہ کے معنی میں ہے ایسے خون کے بارے میں کہا جاتا ہے جو رائیگان جائے اور کوئی اس کا قصاص طلب کرنے والا نہ ہو)

❁ ذَهَبَ بَيْنَ الصَّحْوَةِ وَالسَّكْرَةِ: وہ ہوش اور مدہوشی کے درمیان گیا (یعنی ایسی حالت میں کہ کچھ عقل و شعور تھا اور کچھ عقل و شعور نہ تھا۔

❁ ذَهَبَ فِي السُّمَّهَى: وہ فضا میں چلا گیا (سُمَّهَى کا معنی ہے زمین اور آسمان کے درمیان فضا۔ مراد وہ باطل میں گیا۔ کہا جاتا ہے۔ ذهبت إبلُهُ السُّمَّهَى (اس کے اونٹ ہر طرف بکھر گئے۔ جَرَى فُلَانٌ السُّمَّهَى (فلاں شخص ایسے کام کے لئے گیا جس سے اس کی کچھ بھی

واقفیت نہیں۔

❀ ذَهَبَتْ هَيْفٌ لِأَدْيَانِهَا: گرم ہوا اپنی عادت کے متعلق چلی۔ ھیف کا معنی گرم ہوا جو پودوں کو خشک کر دے اور جانوروں کو پیاسا۔ لادیانھا کا معنی اپنی عادتوں کے مطابق۔ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب ہر شخص اپنے کام کے لئے منتشر ہو جائے یا ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنی عادت پر لگا رہے۔

❀ إِنْ ذَهَبَ عَيْرٌ فَعَيْرٌ فِي الرِّبَاطِ: اگر ایک گورخر ہاتھ سے نکل گیا ہے تو ایک جال میں پھنسا ہوا ہے۔ (یہاں رباط بمعنی جال ہے، اور عیر بمعنی گورخر (جنگلی گدھا) ہے۔ شکاری سے کہا جا رہا ہے اگر ایک گورخر چلا گیا ہے اور جال میں نہیں پھنسا، تو اس گورخر پر اکتفا کرلے جو پھنسا ہوا ہے۔ حاضر پر قناعت اور غائب کو ترک کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❀ ذَهَبُوا تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ: وہ ہر ستارے کے نیچے گئے (ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کے سفر میں راستے مختلف اور متضاد ہوں)

❀ ذَهَبُوا أَوْ تَفَرَّقُوا أَيْدِيَ سَبَا أَوْ أَيَادِيَ سَبَا: وہ اہل سبا کی طرح چلے گئے یا منتشر ہو گئے (یعنی ایسے منتشر ہوئے کہ پھر اکٹھے نہ ہو سکے۔ (اس مثل کی اصل یہ ہے کہ سبا کے باشندوں کو اس سیلاب سے ڈرایا گیا جس نے مارب میں بنائے گئے بند کو تباہ کر دیا تھا، تو وہ لوگ یمن سے منتشر ہو کر نکل گئے۔ ایدی یا آیادی سے مراد نفوس ہیں۔ یہ دونوں حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہیں اور معنی ہے منتشر وہ کر یا بدک کر۔ بعض کے نزدیک ایدی یہاں راستوں کے معنی میں ہے۔ یعنی ان لوگوں کو ان کے راستوں نے اسی طرح منتشر کر دیا جس طرح سبا کے باشندے مختلف راستوں میں منتشر ہو گئے تھے)

❀ لَا يَذْهَبُ الْعُرْفُ بَيْنَ اللّٰهِ وَالنَّاسِ: احسان اللہ اور لوگوں کے درمیان نہیں چلتا۔ (عرف معروف (احسان) کے معنی میں ہے۔ یہ مثل حُطَيْئَة کے شعر کا آخری مصرعہ ہے اور پہلا مصرعہ یہ ہے: مَنْ يَفْعَلِ الْعُرْفَ لَا يُعْدَمْ جَوَازِيَهُ (جو احسان کرے وہ اپنے انعامات سے محروم نہیں ہوتا)

❀ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ: تیرے مال کا وہ حصہ ضائع نہیں ہوا جس نے تجھے نصیحت کی۔

❀ اِذْهَبْ إِلَى حَيْثُ أَلْقَتْ رَحْلَهَا أُمُّ قَشْعَمٍ: اس جگہ جا جہاں ام قشعم نے اپنا کجاوہ ڈالا تھا۔ (قشعم ایک اونٹنی کا نام ہے جس نے اپنا کجاوہ آگ میں پھینک دیا تھا۔ لہٰذا یہ ضرب المثل بن گیا)

❀ مَنْ لَمْ يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ يُتَهَدَّمْ: جو شخص اپنے تالاب کی حفاظت نہیں کرتا وہ منہدم ہو جاتا ہے۔ (یعنی جو شخص اپنی حفاظت نہیں کرتا اس پر ظلم کیا جاتا ہے اور اس کے حق مارے جاتے ہیں)

❀ كُلُّ ذَاتِ ذَيْلٍ تَخْتَالُ: ہر دامن والی ناز و ادا سے چلتی ہے۔ (یعنی ہر مال دار متکبرانہ چال سے چلتا اور اپنے مال پر فخر کرتا ہے)

ر

❀ رَأْسُ الدِّيْنِ صِحَّةُ الْيَقِيْنِ: دین کی اصل یقین کی درستی ہے۔

❀ كُلُّ رَأْسٍ بِهٖ صُدَاعٌ: ہر سر میں درد ہوتا ہے۔

❀ رُبَّ رَأْسٍ حَصِيْدُ لِسَانٍ: بہت سے سر زبان کے کاٹے ہوئے ہیں۔ (حصید بمعنی حصود (کاشت کا کٹا ہوا حصہ)

❀ كَأَنَّ عَلٰى رُؤُوْسِهِمُ الطَّيْرَ: گویا ان کے سروں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ (سنجیدگی، بردباری اور وقار کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے سروں پر بھی پرندے بیٹھے ہوں اور اس ڈر سے کہ وہ اڑ نہ جائیں بے حس و حرکت و پرسکون رہیں۔ طیر پرندوں کی جماعت کے معنی میں ہے اس کا واحد طائر ہے)

❀ رَأَى الْكَوْكَبَ ظُهْرًا: اس نے دوپہر کے وقت ستارہ دیکھا۔ یعنی اپنے دن کے تاریک ہونے پر اس نے دن کو ہی ستارہ دیکھ لیا۔ (یہ مثل حالات کی شدت پر بیان کی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، دن میں تارے نظر آنے لگے)

❀ إِذَا رَأَيْتَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً فَتَطَامَنْ: جب آندھی تخت دیکھو تو پست ہو جاؤ (یعنی جب کوئی معاملہ تم پر غالب ہوتا نظر آئے تو اس کی اطاعت کر لو۔

❀ رَآهُ الصَّادِرُ وَالْوَارِدُ: اس کو تو ہر آنے جانے والے نے دیکھا ہے۔ (ایسے معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جو مشہور ہو اور ہر شخص اس سے واقف ہو ہمارے ہاں: سورج نکلا سب نے دیکھا)

❀ أُرِيْهَا السُّهٰى وَتُرِيْنِي الْقَمَرَ: میں اسے بنات نعش الصغری کا ایک پوشیدہ ستارا دکھاتا ہوں اور وہ مجھے چاند دکھاتی ہے۔ (اس ستارے سے لوگ اپنی آنکھوں کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ظاہری بات میں مغالطہ سے کام لے۔ سھی ایک پوشیدہ ستارے کو کہتے ہیں۔ اس ستارے کی پوشیدگی کو چاند کے ظاہر ہونے سے ملایا گیا ہے)

❀ يَرَى الشَّاهِدُ مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ: حاضر وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔

❀ وَكَمَا تَرَانِي يَا جَمِيْلُ أَرَاكَ: جمیل! جس طرح تم مجھے جانتے ہو میں بھی تمہیں جانتا ہوں۔

❀ سَوْفَ تَرٰى إِذَا انْجَلَى الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَكَ أَمْ حِمَارٌ: جب گرد و غبار چھٹ جائے گا تو تم دیکھ لو گے کہ تمہارے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے کسی کام سے روکا جائے تو وہ اسے کر کے رہے)

❀ أَرِنِيْهَا نَمِرَةً أُرِكْهَا مَطِرَةً: تو مجھے بادل کو چیتے کے رنگ کا دکھا تو میں تجھے اسے برستا ہوا دکھاؤں گا۔ ھاء کی ضمیر کا مرجع سحابة (بادل) ہے۔ سحابة نمرة وہ بادل ہے جو چیتے کے رنگ کا ہو۔ (مراد یہ ہے کہ جب

تم کسی چیز کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا آنے والا ہے۔ ایسے معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جس کا ہونا یقینی ہو بشرطیکہ اس کی نشانیاں اور ابتدائی علامات ظاہر ہو جائیں)

❁ رَأْيُ شَيْخٍ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِ غُلَامٍ: بوڑھے کی رائے لڑکے کی موجودگی سے بہتر ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے زمانہ کے تجربات اور معاملات نے دانا اور حکیم بنا دیا ہو)

❁ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ: اس شخص کی کوئی رائے نہیں جس کی اطاعت نہ کی جائے۔ (یہ حضرت علیؑ کا ارشاد ہے جو انہوں نے اپنے ساتھیوں پر عتاب کرتے ہوئے ایک خطبہ میں فرمایا تھا)

❁ إِنَّ الرَّأْيَ لَيْسَ بِالتَّظَنِّي: بے شک رائے وہ نہیں جو گمان سے قائم کی جائے (معاملہ پر غور و فکر کی ترغیب کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ رَبُّكَ وَصَاحِبُكَ لَا تَكْذِبْ عَلَيْهِمَا: اپنے آقا اور دوست پر جھوٹ نہ بولو۔

❁ كَالْمَرْبُوطِ وَالْمَرْعَى خَصِيبٌ: بندھے ہوئے کی طرح، جبکہ چراگاہ سرسبز ہو (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے مال وغیرہ سے دیا گیا اس کا حصہ تھوڑا ہو)

❁ لَوْلَا الْمُرَبِّي مَا عَرَفْتُ رَبِّي: اگر پرورش کرنے والا نہ ہوتا تو میں اپنے پروردگار کو نہ پہچانتا (یا نہ جانتا)

❁ إِنَّ الرَّثِيئَةَ تَفْثَأُ الْغَضَبَ: میٹھا ملا ترش دودھ غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ (رثیئہ: میٹھا ملا ترش دودھ۔ تفثأ: ساکن کرتا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص کچھ لوگوں کا مہمان ہوا۔ وہ ان سے ناراض بھی تھا اور بھوکا بھی تھا۔ ان لوگوں نے اسے میٹھا ملا ترش دودھ پلایا تو اس کا غصہ فرو ہو گیا۔ (ایسے تحفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جو موافقت کا باعث ہو، خواہ کم ہو)

❁ رَجَعَ بِخُفَّيْ حُنَيْنٍ: وہ حنین کے موزے لے کر لوٹا (ناکام واپسی کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ اس مثل کی اصل یہ ہے کہ دیہاتی نے حنین نامی ایک موچی سے موزوں کا بھاؤ کیا لیکن ان دونوں کے بھاؤ پر اختلاف سے حنین کو غصہ آ گیا تو اس نے دیہاتی کو فریب دینے کی ٹھانی اور ایک موزہ دیہاتی کے راستے میں ڈال دیا اور دوسرا اس سے کچھ فاصلہ پر پھینک دیا اور دونوں جگہوں کے درمیان گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب دیہاتی ایک موزے کے پاس سے گزرا تو کہنے لگا یہ حنین کے موزے سے کتنا مشابہ ہے اگر دوسرا بھی ہوتا تو اسے لے لوں۔ اور چل پڑا جب دوسرے موزے کے پاس پہنچا تو پہلے موزے کو چھوڑ آنے پر پشیمان ہوا۔ اپنی اونٹنی کو باندھ کر اس موزے کو لے لیا اور دوسرے موزے کو لینے کے لئے لوٹا۔ اس اثناء میں حنین کمین گاہ سے نکلا۔ اور اونٹنی اور اس پر بار سامان لے کر چلتا بنا۔ جب دیہاتی اپنے لوگوں میں واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ سفر سے کیا لے کر آئے ہو، تو اس نے جواب دیا ''حنین کے موزے'')

❁ حَتَّى يَرْجِعَ الدَّرُّ فِي الضَّرْعِ: یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں لوٹ آئے۔ (در: دودھ، ناممکن اور محال چیز کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ حَتَّى يَرْجِعَ السَّهْمُ عَلَى فُوْقِهِ: یہاں تک کہ تیر اپنے چلّے پر لوٹ جائے۔ (کہا جاتا ہے: لاافعل ذلك حتى يرجع السهم على فوقه۔ اس کا معنی ہے میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ کیونکہ جب تیر چلایا جاتا ہے تو وہ آگے جاتا ہے ٹیڑھا نہیں ہوتا نہ ادھر ادھر پڑتا ہے اور اپنے چلّے پر واپس نہیں آتا۔ فوق، چلا۔

❁ الرِّجَالُ أَرْبَعَةٌ: مرد چار قسموں کے ہوتے ہیں۔ (ایک وہ جو جانتا ہے اور اسے اپنے جاننے کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ عالم ہوتا ہے اس کا اتباع کرو۔ ایک وہ جو جانتا ہے مگر اسے اپنے جاننے کا ادراک نہیں ہوتا۔ یہ شخص سویا ہوا ہے اسے جگاؤ۔ ایک وہ جو نہیں جانتا مگر اس کو بات کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا یہ شخص طالب ہدایت ہے اس کو تعلیم دو اور ایک وہ جو نہ جانتا ہے اور نہ اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، یہ شخص جاہل ہے اس کو چھوڑ دو۔

❁ هَلْ يُرْتَجَى مَطَرٌ بِغَيْرِ سَحَابٍ: کیا بادل کے بغیر بارش کی امید کی جا سکتی ہے؟

❁ لَا تَرْجُ خَيْرَ مَنْ لَا يَرْجُوْ خَيْرَكَ: اس شخص سے خیر کی امید نہ رکھو جو تمہاری خیر کی امید نہیں رکھتا۔

❁ رَحْلٌ يَعَضُّ غَارِبًا مَجْرُوْحًا: کجاوہ زخمی کوہان کو ہی کاٹتا ہے۔ (غارب کوہان کا بالائی حصہ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو تنگی میں ہو اور دوسرا اس پر اپنا بوجھ بھی ڈال دے۔

❁ إِرْحَمْ مَنْ دُوْنَكَ يَرْحَمْكَ مَنْ فَوْقَكَ: اپنے سے نیچوں پر رحم کرو تم سے اوپر والے تم پر رحم کریں گے۔

❁ أَرْخَصُ مِنَ التَّمْرِ بِالْبَصْرَةِ: بصرہ میں کھجور سے زیادہ سستا۔

❁ أَرْخَصُ مِنْ تُرَابٍ: مٹی سے زیادہ سستا۔

❁ رُدَّ الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَكَ: پتھر کو وہیں لوٹا دو جہاں سے تمہارے پاس آیا ہو (پتھر کا جواب پتھر سے دو۔ ظلم قبول نہ کرو)۔

❁ مَنْ يَرُدُّ السَّيْلَ عَلَى أَدْرَاجِهِ؟: سیلاب کو اس کے راستوں اور بہنے کی جگہوں پر کون لوٹا سکتا ہے؟ (أَدْرَاجُ السيل سیلاب کے راستے اور بہنے کی جگہیں۔ ناممکن بات کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ بِئْسَ الرِّدْفُ لَا بَعْدَ نَعَمْ: ہاں کے بعد نہیں بہت برا تابع ہے۔ ایسا ہی ایک شاعر کا قول ہے:

حَسَنٌ قَوْلُ نَعَمْ بَعْدَ لَا
وَقَبِيحٌ قَوْلُ لَا بَعْدَ نَعَمْ

نہیں کے بعد ہاں کہنا اچھا ہے اور ہاں کے بعد نہیں کہنا برا ہے۔

❁ إِذَا رَزَقَكَ اللّٰهُ مغرفةً فلا تُحْرِقْ يَدَكَ: جب اللہ تعالیٰ تجھے چمچا دے تو اپنا ہاتھ نہ جلانا۔

❁ رِزْقُ اللّٰهِ لَا كَدُّكَ: اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، تیری محنت نہیں۔ (یعنی جب اللہ کی طرف سے عطا نہ ہو تو تیری محنت تجھے فائدہ نہیں پہنچائے

گی۔ نیز بھلائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے نہیں۔ اس شخص کے لئے بھی کہا جاتا ہے جس کی مدد سے خیر حاصل ہو تو وہ اس کا احسان جتائے۔ ایسی حالت میں اس سے کہا جاتا ہے۔ احسان اللہ کا ہے تمہارا نہیں۔

❁ رَزَمَةٌ وَلا دِرَّةٌ: اونٹنی کی آواز ہے مگر دودھ نہیں ہے۔ رَزَمَة اونٹنی کی آواز جو بچے کو دودھ پینے کے لئے بلانے پر نکالتی ہے۔ دِرَّة دودھ کی کثرت اور اس کا بہنا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو وعدے کر کے پورے نہ کرے)

❁ أَرْسِلْ حَكِيمًا وَلا تُوصِهِ: کسی دانا کو قاصد بناؤ اور اس کو حکم نہ دو۔ یہ حضرت زبیر بن عبدالمطلب کے اشعار کا پہلا حصہ ہے۔

إذا كُنْتَ فِيْ حَاجَةٍ مُرْسِلاً
فَأَرْسِلْ حكيماً ولا تُوصِهِ

کسی ضرورت میں کسی کو بھیجو تو ایسے شخص کو بھیجو جو دانا ہو اسے حکم نہ دو۔

❁ لا رَسُولَ كَالدِّرْهَمِ: روپے جیسا کوئی قاصد نہیں۔

❁ الرَّشْفُ أَنْقَعُ: چوسنا زیادہ پیاس بجھانے والا (یعنی پانی کو چوسنا منہ لگا کر پینے سے زیادہ سیراب کرنے والا ہے۔ کسی ضرورت کے حصول میں جلد بازی سے کام نہ لینے کے فائدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ یہ رشف کے معنے سے ماخوذ ہے جس کا مفہوم پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے چوسنا ہے۔

❁ رَضِيْتُ مِنَ الغنيمة بالإِياب: میں نے غنیمت کے بدلہ میں واپسی پر قناعت کی۔ (إِيـاب: واپس لوٹنا۔ ناکامی کے بارے میں یہ مثل اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی چیز کے لئے دوڑ دھوپ کے باوجود اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہر سلامتی کے ساتھ واپسی پر قناعت کرنے یا اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی ضرورت کی طلب میں بدبختی سے دوچار ہونے پر نجات پانے پر قناعت کرلے۔

❁ رَضِيْتُ مِنَ الْوَفَاءِ بِاللَّفَاءِ: میں تھوڑی سی وفا پر راضی ہوں۔ (لَفَاء: تھوڑی چیز کیونکہ میں کسی کے پاس بھی زیادہ ہو وفا نہیں پاتا)

❁ مَنْ رَضِيَ عن نفسِهِ كَثُرَ الساخِطِيْنَ عَلَيْهِ: جو اپنے نفس سے راضی ہو گیا اس نے خود پر ناراض لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرلیا۔

❁ إذا تَرَضَّيْتَ أَخَاكَ فلا أخالَكَ: جب تو محنت کر کے اپنے بھائی کو راضی کرے تو وہ تیرا بھائی نہیں ہے۔ (تَرَضِّي محنت اور کوشش کر کے راضی کرنا کے معنی میں ہے۔ مراد اگر بھائی تجھے اپنے کو محنت اور کوشش سے رضامند کرنے اور مدارات پر مجبور کرے تو وہ تیرا بھائی نہیں ہوگا۔)

❁ رِضَا النَّاسِ غَايَةٌ لاتُدْرَكُ: لوگوں کی رضامندی ایسا مقصد ہے جو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ (یعنی آدمی بہر صورت لوگوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا لہٰذا چاہئے کہ وہ اپنی اصلاح کے طریقے استعمال کرے اور لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرے)

❁ لاتَكُنْ رَطْبًا فَتُعْصَرَ ولا يَابِسًا فَتُكْسَرَ: تو نہ تو اتنا تر ہو جا کہ تجھے نچوڑ لیا جائے اور نہ اتنا خشک کہ تجھے توڑ کر رکھ دیا جائے۔

❁ مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ ظَلَمَ: جس نے بھیڑیے کو چرواہا بنایا، اس نے ظلم کیا (یعنی اس نے بکریوں پر ظلم کیا۔ یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ اس نے بھیڑیے کے ذمہ ایسا کام لگایا جو اس کی طمع میں ہی نہیں اور یوں اس نے بھیڑیے پر ظلم کیا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو خائن کو انتظام سپرد کرے یا امانت بے ٹھکانا رکھے)۔

❁ مَرْعًى ولا أَكُولَةٌ: چراگاہ تو ہے مگر چرنے والی بکری ہی نہیں۔ (أَكُولَة: اس بکری کو کہا جاتا ہے جسے چرنے اور موٹا ہونے کے لئے علیحدہ کرلیا جائے۔ ایسے مال دار شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کا مال کھانے والا کوئی نہ ہو)

❁ تَحْتَ الرَّغْوَةِ الصَّرِيحُ: جھاگ کے نیچے خالص دودھ (ایسے معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جس کی حقیقت پوشیدہ رہنے کے بعد ظاہر ہو)

❁ مِنَ الرَّفْشِ إلى العَرْشِ: بیلچہ سے تخت تک (کمینہ تھا پھر ترقی کر کے اور بیلچہ سے کام کرتے کرتے تخت شاہی پر جا بیٹھا۔)

❁ تَرْفَضُّ عِنْدَ الْمُحْفِظَاتِ الْكَتَائِفُ: غیرت انگیز موقعوں پر کینے منتشر ہو جاتے ہیں۔ (ترفضّ بمعنی منتشر ہونا، مُحْفِظات غیرت کو جوش دلانے والی باتیں، اور كَتَائِف کینے، دشمنیاں، مراد یہ ہے کہ اپنے ساتھ زندگی گزارنے والے پر ظلم ہوتا دیکھ کر تو غصہ سے بھڑک اٹھتا ہے اور اس سے کینہ اور دشمنی بھول کر اس کی مدد کرنے لگتا ہے۔)

❁ أَرْفَعُ مِنَ السَّمَاءِ: آسمان سے زیادہ بلند

❁ الرَّفِيْقَ قَبْلَ الطَّرِيقِ: راستے سے پہلے ساتھی حاصل کر۔ (اور اسے مطلع کر ہو سکتا ہے وہ موافقت نہ کرے اور تو اس کی جگہ کسی اور کو اپنے ساتھ نہ لیجا سکے۔)

❁ بـالـرِّفَـاءِ والبَنِين: اتفاق واتحاد اور بچوں کے ساتھ (شادی کرنے والے کے لئے دعا ہے۔ رِفاء بمعنی موافقت اور مناسبت۔ یہ اس قول سے لیا گیا ہے رَفَأْتُ الثوبَ (میں نے کپڑے کے پھٹے ہوئے حصہ کو سی دیا، رفو کر دیا)

❁ أَرَقُّ مِنَ النَّسِيمِ: بادنسیم سے زیادہ لطیف۔

❁ أرَقُّ مِنَ الْمَاءِ: پانی سے زیادہ پتلا۔

❁ أرَقُّ مِنْ دَمْعِ الغَمَامِ: ابر کے آنسوؤں سے زیادہ پتلا۔

❁ أرَقُّ مِنْ رَقْرَاقِ السَّرَابِ: سراب کی چمک سے زیادہ لطیف (رقراق السراب بمعنی سیراب کی چمک

❁ أُرْقُبِ البيتَ مِن رَاقِبِهِ: گھر کے محافظ سے گھر کی حفاظت کر (یہ اس شخص کا قول ہے جسے اپنے گھر میں غلام کی موجودگی سے خوف تھا چنانچہ جب وہ واپس آیا تو وہ غلام اس کا سب سامان لے کر چمپت ہو چکا تھا۔

❁ كـالـرَّاقِمِ على الماء: پانی پر لکھنے والے کی طرح۔ (اس چیز کے

لئے کہا جاتا ہے جو نہ تو ایک جگہ ٹھہرے اور نہ اثر انداز ہو)

❁ اِرْقَ عَلٰی ظَلْعِكَ: پہلے اپنے معاملہ کو ٹھیک کر (یا مقدور بھر برداشت کر یعنی اپنی دھمکی میں اپنی حد سے تجاوز نہ کر اور اپنی خامی اور بیکسی کو سامنے رکھ اور اپنے عیب پر خاموش رہ کیونکہ سیڑھیاں چڑھنے والا اگر لنگڑا ہو تو اپنے آپ سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ ظَلَعَ البعیر کا معنی ہے اونٹ کا چلنے میں لنگڑانا۔ اس مثل کا معنی ہے مقدور بھر برداشت کر کیونکہ سیڑھیاں یا پہاڑ پر چڑھنے والا اگر لنگڑاتا ہو تو اپنے آپ سے نرمی سے پیش آتا ہے اور خود کو استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا)

❁ رَكِبَ جَنَاحَيِ النَّعَامَةِ: وہ شتر مرغ کے بازوؤں پر سوار ہوا (تیز رفتاری اور عجلت کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ يَرْكَبُ الصَّعْبَ مَنْ لَا ذَلُولَ لَهُ: سرکش پر تو وہ شخص ہی سوار ہوتا ہے، جس کے پاس سدھایا اونٹ نہ ہو۔ (آسانی سے مقصد حاصل نہ ہو تو آدمی خود کو مشقت پر اکساتا ہے)

❁ مَنْ لَمْ يَرْكَبِ الْأَهْوَالَ لَمْ يَنَلِ الْآمَالَ: جو شخص خود کو خوفناک خطروں میں نہ ڈالے وہ امیدوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔

❁ كَرَاكِبِ اِثْنَيْنِ: دو (جانوروں) پر سوار کی طرح۔ دو معاملوں پر شک و شبہ میں پڑنے والے کے لئے کہا جاتا ہے۔

❁ رَمَى الْكَلَامَ عَلٰی عَوَاهِنِهِ: اس نے کلام کو کھجور کی ٹہنیوں پر دے مارا۔ عَوَاهِن (عاهنة کی جمع) بمعنی کھجور کی خشک شاخیں، مراد یہ ہے کہ اس نے بے پروائی سے بات کی، خواہ درست تھی یا غلط)۔

❁ رَمَاهُ اللّٰهُ بِلَيْلَةٍ لَا أُخْتَ لَهَا: اللہ تعالیٰ اس پر ایسی رات لائے جس کی بہن نہ ہو (یعنی اسے دوسری رات سے پہلے موت آجائے بددعا ہے)

❁ رَمَاهُ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ أَكَمَةٍ بِحَجَرٍ: اللہ تعالیٰ اس کو ہر ٹیلے سے پتھر مارے۔ (اس پر چاروں طرف سے پتھر برسیں۔ بددعاء ہے)

❁ رَمَاهُ بِأَقْحَافِ رَأْسِهِ: اس نے اسے اس کے سر کی کھوپڑی پر مارا۔ (یعنی کسی مصیبت سے اسے خاموش کر دیا یا اسے اس پر لوٹا لایا۔ قِحف دماغ کی اوپر کی ہڈی کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اقحاف جمع کے لفظ کے ساتھ لانے کی وجہ یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اس نے اس کی کھوپڑی پر بار بار مارا۔ یہ قتل سے کنایہ ہے۔ گویا اس نے اس سے خاموش کرنے کے انتہائی مقصد (قتل) کو حاصل کر لیا۔ مقتول تو بولتا نہیں۔

❁ رَمَاهُ اللّٰهُ بِثَالِثَةِ الْأَثَافِي: اللہ تعالیٰ اس کو چولہے کے تیسرے پتھر مارے (الاثافی) بمعنی پہاڑی کا ٹکڑا جس کے ساتھ دو پتھر رکھ کر ان پر ہنڈیا رکھی جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس شخص کے لئے بھی کہا جاتا ہے جو برائی بالکل نہ چھوڑے کیونکہ اثافی تین پتھر ہوتے ہیں تو اگر اسے تیسرا پتھر بھی مار دیا گیا تو معاملہ انتہا کو پہنچ گیا)

❁ رَمَاهُ اللّٰهُ بِدَاءِ الذِّئْبِ: اللہ تعالیٰ اس کو بھیڑیے کے مرض میں مبتلا کرے۔ (کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اللہ اسے بھوک میں مبتلا کرے کیونکہ بھیڑیا ہمیشہ بھوکا رہتا ہے)

❁ رَمَاهُ بِنَبْلِهِ الصَّائِبِ: اس نے اسے نشانے پر لگنے والا تیر مارا۔ (یعنی اپنے مخالف کو مسکت اور منہ توڑ جواب دیا)

❁ رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ: اس نے اپنی بیماری مجھ سے منسوب کر دی اور کھسک گئی۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھی سے اس عیب کو منسوب کرے جو خود اس میں ہو۔ اِنسلال: جماعت سے نکل جانا۔ رماه بالداء: کسی کو بیماری سے منسوب کرنا، اس پر بیماری کا عیب لگانا۔

❁ لَا تَرْمِ سَهْمًا يُعْسِرُ عَلَيْكَ رَدُّهُ: ایسا تیر نہ چلا جسے تو لوٹا نہ سکے۔

❁ قَبْلَ الرَّمْيِ يُرَاشُ السَّهْمُ: تیر پھینکنے سے پہلے اس کو پر لگایا جاتا ہے۔ (کسی کام کے لئے اس کے آپڑنے سے پہلے تیاری اور اوزار کی ضرورت پیش آنے سے پہلے اس کو درست کرنے کے لئے کہا جاتا ہے۔ یراش پر پر لگایا جانا کے معنی میں ہے۔ یعنی تیر چلانے کے وقت سے پہلے تیر درست کر لینا ضروری ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں قَبْلَ الرماء تُمْلَأُ الْكَنَائِنُ۔ تیر اندازی سے پہلے ترکش بھر لئے جاتے ہیں)

❁ مَا كُلُّ رَامِي غَرَضٍ يُصِيبُ: ہر نشانہ باز نشانہ پر نہیں مار سکتا (غَرَض بمعنی ہدف ہے جو تیر اندازی کے لئے نصب کیا جاتا ہے)

❁ قَبْلَ الرماء تُمْلَأُ الْكَنَائِنُ: ترکش تو تیر اندازی سے پہلے ہی بھر لیا جاتا ہے (یعنی کسی کام کو کرنے سے پہلے تیاری کر لینا چاہئے۔ رِمَاء رَامَاه کا مصدر ہے۔ كَنَائِن تیر رکھنے کے تھیلے، ترکش)

❁ رُبَّ رَمْيَةٍ مِنْ غَيْرِ رَامٍ: کبھی تیر اندازی اس کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے جو تیر اندازی نہیں جانتا (یعنی کبھی اناڑی کا تیر بھی نشانہ پر لگ جاتا ہے۔ اس شخص کے لئے بھی کہا جاتا ہے جو غلطی کرتا ہو مگر کبھی درست کام بھی کر جائے۔ اس کا ہم معنی یہ قول ہے۔ مَعَ الْخَوَاطِي سَهْمٌ صَائِبٌ (خطا کرنے والے تیروں میں نشانہ پر بیٹھنے والا تیر بھی ہوتا ہے)

❁ عِنْدَ الرِّهَانِ تُعْرَفُ السَّوَابِقُ: گھوڑ دوڑ کے وقت ہی آگے نکلنے والے گھوڑوں کی پہچان ہوتی ہے۔ (ایسے معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جو آزمائش اور امتحان کے بعد ظاہر ہو اور اس کی حقیقت معلوم ہو۔ نیز اس شخص کے لئے بھی کہا جاتا ہے جو ایسی خوبی کا دعویٰ کرے جو اس میں نہ ہو)

❁ اِسْتَرَاحَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ: جس میں عقل نہیں اس نے راحت پائی (عقل والا معاملات میں بہت فکر مند ہوتا ہے اور سوچ بچار کرتا ہے اور کسی بات پر کم ہی خوش ہوتا ہے لیکن بے وقوف کسی بات پر نہ تو سوچ بچار کرتا ہے اور نہ ہی فکر مند ہوتا ہے)

❁ الرَّائِدُ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ: قوم کے لئے پانی اور گھاس کی تلاش میں آگے جانے والا اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ (کیونکہ اگر وہ ان سے جھوٹ بولے گا تو ان کا کام بھی بگاڑے گا اور ان کے ساتھ اپنا بھی)

۞ أَرْوَغُ مِنْ ثُعَالَةَ: لومڑی سے زیادہ چالباز۔

۞ أَرْوَغُ مِنْ ثَعْلَبٍ: لومڑی سے زیادہ مکار۔

۞ أَرْوَاغًا يا ثُعَالُ وقد عَلِقْتِ بالحبال: لومڑی کیا تو جال میں پھنس کر بھی حیلہ بازی کرے گی۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو حق واجب ہونے کے بعد بھی حیلہ بازی سے باز نہ آئے)

۞ أَرْوَى مِنْ حَيَّةٍ: سانپ سے زیادہ سیراب۔ (کیونکہ سانپ ایسے میدانوں میں رہتے ہیں جہاں نہ پانی ہوتا ہے، نہ انسان اور نہ گھاس۔ اس لئے پانی نہیں پیتے اور نہ پانی کی خواہش کرتے ہیں)

۞ أَرْوَى مِنْ ضَبٍّ: گوہ سے زیادہ سیراب۔ (کیونکہ گوہ بالکل پانی نہیں پیتی۔ پیاس لگے تو ہوا کی طرف رخ کر کے منہ کھولتی ہے اور اسی میں سیرابی حاصل کرلیتی ہے۔ عرب کسی ناممکن چیز کے متعلق کہتے ہیں۔ لا یکون هذا حتی يَرِدَ الضبُّ جب تک گوہ پانی پر نہ آئے یہ ممکن نہیں)

۞ الرَّاوِيَةُ أَحَدُ الشَّاتِمِينَ: بہت روایت کرنے والا گالی دینے والوں میں سے ایک ہے۔ اسی جیسا یہ قول ہے۔

۞ سَبَّكَ مَنْ بَلَّغَكَ: جس نے تجھے کسی کا پیغام پہنچایا۔ اس نے تجھ کو گالی دی)

۞ رُبَّ رَيْثٍ يُعْقِبُ فَوْتًا: بسا اوقات کسی امر میں تاخیر سے اس کا وقت جاتا رہتا ہے۔ (ریث: تاخیر کرنا)

۞ إِنْ كُنْتَ رِيحًا فَقَدْ لاقَيْتَ إِعْصَارًا: اگر تو ہوا تھا تو بگولے سے مل گیا۔ (إعْصَار: بگولہ۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو خود پسند اور مغرور ہو اور اس کی اپنے سے زیادہ زیرک اور سخت شخص سے مڈبھیڑ ہو جائے۔ ہمارے ہاں سیر کو سوا سیر مل گیا)

۞ إِنْ أَرَدْتَ الْمُحَاجَزَةَ فَقَبْلَ الْمُنَاجَزَةِ: اگر تو دفاع چاہتا ہے تو لڑائی سے پہلے دفاع کر۔ (محاجزہ کا معنی ایک دوسرے سے اپنا دفاع کرنا ہے۔ مناجزہ نجز سے مشتق ہے اور اسی کا معنی فنا ہے۔ بعض کے نزدیک کسی کے خلاف لڑنا اور مبارزت ہے کیونکہ دونوں مدمقابل لڑنے والوں میں سے ہر ایک دوسرے کو فنا کر دینا چاہتا ہے۔ مثل کا معنی ہے جس شخص کا تو مقابلہ نہیں کرسکتا اس کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بچالے۔ اس شخص کے لئے بھی کہا جاتا ہے جو لڑائی کے بعد صلح کا طالب ہو)

۞ أُرِيدُ حِبَاءَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي: میں تو اس کو عطیہ دینا چاہتا ہوں وہ میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے۔ (حِباء: عطا، بخشش)

۞ إذا أَرَادَ اللّٰهُ هلاكَ نَمْلَةٍ أَنْبَتَ لها جَنَاحَيْنِ: جب اللہ کسی چیونٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو پر لگا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے: جب چیونٹی کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں)

۞ مَنْ لَمْ يُرِدْكَ فلا تُرِدْهُ: جو شخص تیرا ارادہ نہ کرے تو بھی اس کا ارادہ نہ کر)

۞ كَمْ بَيْنَ مُرِيدٍ وَمُرَادٍ: ارادہ کرنے والے اور مراد میں بڑا فاصلہ ہے۔ عدم اتفاق یا کامیابی کی دشواری کے لئے کہا جاتا ہے۔ تو کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے تو توقع کے خلاف اس سے محروم رہتا ہے۔

ز

۞ جَعَلَ الزُّجَّ قُدَّامَ السِّنَانِ: اس نے نیزہ کی ٹوپی کو نیزہ کی انی کے آگے لگایا۔ (زج نیزہ کی ٹوپی جو اس کے نچلے حصے میں لگائی جاتی ہے۔ سنان: نیزے کی انی (نیزہ کا پھل) اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ادنیٰ کو اعلیٰ پر فوقیت دے۔

۞ إِنْ لَمْ تُزَاحِمْ لَمْ يَقَعْ فِي الخُرْجِ شَيْءٌ: اگر تو مزاحمت سے گریز کرے گا تو خرجین میں کچھ نہیں جائے گا۔

۞ مَنْ يَزْرَعِ الشَّوْكَ لايَحْصُدْبه العِنَبَا: جو کانٹے بوئے گا اس سے انگور کی فصل نہیں کاٹ سکے گا۔ (قطف العنب کہا جاتا ہے حصد العنب نہیں لیکن کہنے والے نے حصد کو زرع کے مقابل رکھا ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ جو کسی سے برا سلوک کرے گا وہ اس سے بھی برے سلوک کی توقع رکھے)

۞ كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ: جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔

۞ هُوَ أَزْرَقُ العين: وہ نیلی آنکھ والا ہے یعنی دشمن ہے اس معنی میں کہا جاتا ہے هو أَسْوَدُ الكَبِد: (وہ سیاہ جگر ہے) اور هم صُهْبُ السِّبَال وہ سرخ مونچھوں والے ہیں۔ یعنی دشمن ہیں۔

۞ لِكُلِّ زَعْمٍ خَصْمٌ: ہر دعویٰ کا ایک مخالف ہے۔ (جب کوئی شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو تو کہا جاتا ہے)

۞ زَقَّهُ زَقَّ الحَمَامَةِ فَرْخَهَا: اس نے اس کو اس طرح چوگا دیا جس طرح کبوتری اپنے چوزے کو چوگا دیتی ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے قریبی رشتہ دار کی شفقت میں کوتاہی کے بغیر پرورش کرتا ہے۔

۞ إذا زَلَّ العَالِمُ زَلَّ بِزَلَّتِهِ عالَمٌ: جب عالم پھسل جائے تو اس کے پھسلنے سے ایک جہاں پھسل جاتا ہے۔

۞ زَلَّةُ الرَّأْيِ تُنْسِي زَلَّةَ القَدَمِ: رائے کا پھسلنا قدم کے پھسلنے کو بھلا دیتا ہے۔ (مستقل مزاج عقلمند سے سرزد ہونے والی لغزش کے بارے میں کہا جاتا ہے)

۞ لِكُلِّ زَمَانٍ رِجَالٌ: ہر زمانہ کے لئے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔

۞ هُمَا زَنْدَانِ فِي وِعَاءٍ: وہ ایک ہی برتن میں دو آگ سلگانے والے ہیں۔ (ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، برائی میں یکساں)

۞ أَزْهَى مِنْ غُرَابٍ: کوئے سے زیادہ متکبر۔

۞ أَزْهَى مِنْ طَاوُوسٍ: مور سے زیادہ اترانے والا۔

۞ أَزْهَى مِنْ وَعِلٍ: پہاڑی بکرے سے زیادہ متکبر۔

۞ زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا: ایک دن چھوڑ کر ملنے جایا کر تجھ سے محبت بڑھے گی۔ (غب ایک دن ملنے جانا دوسرے دن نہ جانا روز کا آنا جانا قدر کھو

دیتا ہے)

❁ الزَّيْتُ فِي العَجِينِ لايَضِيعُ: آٹے میں روغن ضائع نہیں ہوتا۔ (رشتہ داروں سے احسان کرنے والے کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ زَادَ فِي الطُّنْبُورِ نَغْمَةً: اس نے طنبور میں ایک نغمہ کا اضافہ کر دیا۔

❁ زُيِّنَ فِي عَيْنِ الوَالِدِ وَلَدُهُ: باپ کی نظر میں بیٹا خوبصورت ہوتا ہے (اپنوں کی تحسین کے بارے میں کہا جاتا ہے۔)

س

❁ إنْ سَأَلَ أَلْحَفَ وإنْ سُئِلَ سَوَّفَ: اگر وہ سوال کرتا ہے تو لپٹ جاتا ہے اور اگر اس سے سوال کیا جاتا ہے تو ٹال دیتا ہے۔

❁ تَسْأَلُنِي أُمُّ الخِيارِ جَمَلاً
يَمْشِي رُوَيْدًا ويَكُونُ أَوَّلاً

ام الخیار مجھ سے ایسا اونٹ مانگتی ہے جو آہستہ چلے اور اول آئے (یعنی ایسی چیز طلب کرتی ہے جو ناممکن ہو)

❁ سَائِلُ اللّٰهِ لا يَخِيبُ: خدا سے مانگنے والا بے نتیجہ نہیں رہتا۔ (لوگوں سے تنفر اور ان سے مانگنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ سَبَّكَ مَنْ بَلَّغَكَ السَّبَّ: جس نے تمہارے پاس گالی پہنچائی اس نے تمہیں گالی دی۔

❁ سُبَّنِي واصْدُقْ: مجھے گالی دو، مگر سچ بولو۔ (مجھے اس کی پروا نہیں کہ تو مجھے گالی دے کیونکہ مجھے اپنا پتہ ہے، جبکہ تو جھوٹ سے گریز کر رہا ہو۔ سچ کی رغبت دلانے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ مَالَهُ سَبَدٌ ولا لَبَدٌ: نہ اس کے بال ہیں نہ اون) سبد: بال، لبد: اون۔ یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔)

❁ سَبَقَ سَيْلُهُ مَطَرَهُ: اس کا سیلاب اس کی بارش سے پہلے ہی آ گیا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو دھمکی سے پہلے ہی کارروائی کر ڈالے)

❁ سَبَقَ السَّيْفُ العَذَلَ: تلوار ملامت سے سبقت لے گئی (یہ ضبة بن اد نے حرم میں اپنے بیٹے کے قاتل کو قتل کرنے پر لوگوں کی طرف سے ملامت پر کہا تھا)

❁ سَبَقَ دِرَّتَهُ غِرَارُهُ: اس کے دودھ کی قلت اس کے دودھ کی کثرت سے سبقت لے گئی (غرار: دودھ کی قلت، (درہ: دودھ کی کثرت: یعنی اس کی برائی اس کی بھلائی سے پہلے وقوع پذیر ہوئی اور احسان سے پہلے اس نے خباثت شروع کر دی۔)

❁ مَنْ سَابَقَ الدَّهْرَ عَثَرَ: جو زمانہ سے آگے بڑھا پھسل گیا۔ (ٹھوکر کھائی)

❁ مَا اسْتَتَرَ مَنْ قَادَ الجَمَلَ: جو اونٹ کو آگے سے کھینچ کر لے جائے وہ چھپا نہیں رہے گا۔

❁ سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَلِيلٍ تَقَشَّعُ: موسم گرما کا بادل جلد ہی چھٹ جاتا ہے۔ (تقشّع، تنقشع کی جگہ ہے۔ اس کا معنی غائب ہو جانا، چھٹ جانا ہے۔ (اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو تھوڑی دیر

رہے)

❁ لَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي: جب اس کی کلائی سخت ہو گئی تو اس نے مجھے ہی تیر مارا۔ (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اپنے پر احسان کرنے والے پر برائی کا ارتکاب کرے۔ پورا شعر یوں ہے۔ أُعَلِّمُهُ الرِمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ، فَلَمَّا اسْتَدَّ ساعِدُهُ رمانِي۔ پہلے مصرعہ کا معنی ہے میں اس کو ہر روز تیر اندازی سکھاتا تھا)

❁ السِرُّ أَمَانَةٌ: بھید ایک امانت ہے۔

❁ سِرُّكَ مِنْ دَمِكَ: تیرا راز تیرے خون سے متعلق ہے۔ (مراد بسا اوقات افشائے راز موت کا سبب بن جاتا ہے)

❁ مَالَهُ سَارِحَةٌ ولا رَائِحَةٌ: اس کے پاس نہ چرنے والے مویشی ہیں نہ چر کر واپس لوٹنے والے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ سارحۃ: چرنے والے مویشی۔ رائحۃ: چر کر شام کو واپس آنے والے مویشی)

❁ أَسْرَعُ مِنَ البَرْقِ: بجلی سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ أَسْرَعُ مِنَ البَيْنِ: جدائی سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ أَسْرَعُ مِنَ الطَّرْفِ: نگاہ سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ أَسْرَعُ مِنَ اللمحِ: نظر سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ أَسْرَعُ مِنْ لَمْحِ البَصَرِ: آنکھ جھپکنے سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ أَسْرَعُ مِنْ رَجْعِ الصَّدَى: صدائے بازگشت سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ أَسْرَعُ مِنَ اليَدِ إِلَى الفَمِ: منہ کی طرف اٹھنے والے ہاتھ سے زیادہ تیز رفتار۔

❁ يَسْرِقُ الكُحْلَ مِنَ العَيْنِ: وہ آنکھ سے سرمہ چراتا ہے۔

❁ أَسْرَى مِنَ الخَيالِ: خیال سے زیادہ چلنے والا۔

❁ السَّعِيدُ مَنْ كُفِيَ: نیک بخت وہ ہے جس کی تمام ضروریات پوری ہو گئیں۔

❁ بِالسَّاعِدِ يَبْطُشُ الكَفُّ: کلائی کے ذریعے ہی ہاتھ کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ (یعنی دولت اور طاقت سے جو چاہے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ نیز مددگاروں کی کمی پر بھی کہا جاتا ہے۔ اس مفہوم کا حامل یہ شعر بھی ہے:

أُولَئِكَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رُزِئْتُهُمْ
وَمَا الكَفُّ إلا إِصْبَعٌ ثُمَّ إِصْبَعُ

(یہ میرے بھائی ہیں جن سے میں بھلائی حاصل کرتا ہوں، ہاتھ تو انگلیوں کا مجموعہ ہے)

❁ مَالَهُ سَعْنَةٌ ولا مَعْنَةٌ: اس کے پاس تھوڑا بہت کچھ بھی نہیں (سعنۃ کھانے وغیرہ کی کثرت، معنۃ: کھانے وغیرہ کی کمی؟

❁ مَنْ سَعَى رَعَى: جو دوڑا اس نے چر لیا۔ (جس نے کوشش کی اس نے پا لیا)

❁ رُبَّ سَاعٍ لِقَاعِدٍ: کئی لوگ بیٹھے ہوئے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔ (اس کا اولین قائل نابغہ زبیانی ہے۔ نعمان بن منذر کے پاس

عربوں کے کئی وفد آئے ان میں بنی عبس کا شقیق نامی شخص بھی تھا، جس کی اس کے ہاں وفات ہوگئی۔ نعمان نے ان وفود کو عطیے دیئے تو اس نے شقیق کے گھر والوں کے لئے ایسا ہی ایک عطیہ بھیجا۔ جب نابغہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے یہ بات کہی جو ضرب المثل بن گئی۔

❁ يَسْتَفُّ التُرابَ ولا يخضع لِأحَدٍ عَلَى بَابٍ: وہ خاک پھانکتا ہے مگر کسی کے دروازے پر نہیں جھکتا (خوددار کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ سَفِيهٌ لَمْ يجد مُسَافِهًا: بے وقوف کا کسی گالی دینے والے سے واسطہ نہیں پڑا۔

❁ حَيْثُما سَقَطَ لَقَطَ: وہ جہاں کہیں گرا وہیں سے کچھ نہ کچھ اٹھالیا۔ (حیلہ ساز اور چالاک شخص کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لاقِطَةٌ: ہر گرنے والی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا مل جاتا ہے (منہ سے نکلنے والی ہر بات کو لے اڑنے والا کان ہوتا ہے۔ گفتگو میں احتیاط برتنے کے لئے کہا جاتا ہے ہمارے ہاں: دیوار کے بھی کان ہیں)

❁ يَسْقِي مِنْ كُلِّ يَدٍ بِكَأسٍ: وہ ہر ہاتھ سے ایک پیالہ پی لیتا ہے۔ بہت زیادہ متلون مزاج کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ سَاقِيَةٌ لاتُعَكِّرُ بَحْرًا: چھوٹی نہر سمندر کو گدلا نہیں کرسکتی۔

❁ سَكَتَ أَلْفًا ونَطَقَ خَلْفًا: وہ ہزار بار خاموش رہا، بولا تو منہ سے بری بات نکلی۔ (خَلْف: بری بات وغیرہ۔ اَلْفًا مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی یہ سکت ألف سكتة ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو طویل خاموشی کے بعد بولے تو اس کے منہ سے کوئی اچھی بات نہ نکلے)

❁ السكوتُ أخو الرضا: خاموشی رضامندی جیسی ہے۔

❁ رُبَّ سُكُوتٍ أَبْلَغُ من كلام: بہت سی خاموشیاں کلام سے زیادہ بلیغ ہوتی ہیں۔

❁ رُبَّما كَانَ السكونُ جواباً: بعض اوقات خاموشی ہی جواب ہوتی ہے۔

❁ سَلْحُ الحُبارَى سِلاحُهُ: تغدار کا بیٹ کرنا اس کا ہتھیار ہے۔ (یہ پرندہ حملہ آور سے بیٹ کر کے ہی بچتا ہے۔ کیونکہ یہ اپنا گھونسلہ درخت کے بالائی حصہ پر بناتا ہے۔ جب کوئی درخت پر چڑھتا ہے تو اس کے چہرہ پر بیٹ کر دیتا ہے تو وہ اپنے آپ میں مشغول ہونے کی وجہ سے اوپر چڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔)

❁ سِلاحُ الضُعَفاءِ الشِكايَةُ: کمزوروں کا ہتھیار شکایت ہے۔

❁ أَسْلَحُ مِنَ الحُبارَى: تغدار سے زیادہ بیٹ کرنے والا۔ (تغدار بہت بیٹ کرتا ہے اور جب چاہے بیٹ کر دیتا ہے۔

❁ السُلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ فِي أرْضِهِ: بادشاہ خدا کی زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ (یعنی ہر مظلوم اس سایہ میں ٹھکانہ لیتا ہے۔

❁ لاسُلْطَانَ بلارِجَالٍ: بغیر آدمیوں کے حکمرانی نہیں ہوسکتی۔

❁ لَيْسَ لِسُلْطَانِ العِلمِ زَوَالٌ: علم کی طاقت لازوال ہے۔

❁ مَنْ سَلَكَ الجَدَدَ أَمِنَ العِثارَ: جو شخص ہموار زمین پر چلے گا وہ پھسلنے (ٹھوکر لگنے) سے محفوظ رہے گا۔ (جَدَد: ہموار زمین)

❁ إِنْ سَلِمْتَ مِنَ الأَسَدِ فَلا تَطْمَعْ فِي صَيْدِهِ: اگر تو شیر سے بچ جائے تو اس کے شکار کا لالچ نہ کر۔

❁ مَنْ سَلِمَتْ سَرِيرَتُهُ سَلِمَتْ عَلانِيَتُهُ: جس کا راز محفوظ رہا اس کی کھلی ہوئی باتیں بھی محفوظ رہیں گی۔

❁ إِنْ تَسْلَمِ الجِلَّةُ فَالنِّيبُ هَدَرٌ: اگر بڑے اونٹ بچ جائیں تو بوڑھی اونٹنیاں رائیگاں ہیں) جِلَّة: جلیل کی جمع ہے مراد بڑے اونٹ، مراد یہ ہے کہ اگر نفع آور چیز بچ جائے تو بے کار چیز کی قدر نہیں ہوتی)

❁ السَّلامَةُ غَنِيمَةٌ: سلامتی غنیمت ہے۔

❁ إِنَّ السلامَةَ مِنْهَا تَرْكُ مافيها: دنیا سے بچنا دنیا کی چیزوں کو چھوڑنے میں ہے۔ (منها اور فيها کا مرجع دنیا ہے۔ یہ شعر کا دوسرا مصرعہ ہے۔ پہلا یہ ہے۔ والنَفْسُ تَكْلَفُ بالدُّنْيا وَقَدْ عَلِمَتْ نفس دنیا کا عاشق ہے اور اسے معلوم ہو چکا ہے کہ (أَنَّ السلامَةَ مِنْها تَرْكُ مافيها: دنیا سے بچنا دنیا کی چیزوں کو چھوڑنے کے مترادف ہے)

❁ أَسْمَحُ مِنْ لافِظَةٍ: پرندہ سے زیادہ سخی (لافظة: چونچ سے دانے چگنے والا پرندہ اس کی مادہ اپنے چوزے کو چوگا دیتی ہے اور اس کے پوٹے میں اپنے لے، کچھ نہیں بچتا۔ یہ مثل سخاوت کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے)

❁ لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْنَادَيْتَ حَيًّا: اگر تو کسی زندہ کو پکارتا تو اس کو سنا دیتا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے نصیحت کی جائے تو وہ اسے قبول نہ کرے اور نہ سمجھے)

❁ أَسْمَعُ جَعْجَعَةً ولا أَرَى طِحْنًا: میں چکی کی گڑگڑاہٹ تو سنتا ہوں مگر آٹا نظر نہیں آتا۔ (یعنی شور وغل تو مجھے سنائی دیتا ہے مگر عمل دکھائی نہیں پڑتا۔ (بزدل کے لئے کہا جاتا ہے جو دھمکی دیتا ہے مگر اس کو عملی جامہ نہیں پہناتا اور کنجوس کے لئے کہا جاتا ہے جو وعدہ کرتا ہے مگر وعدہ وفا نہیں کرتا)

❁ أَنْ تَسْمَعَ بِالْمُعَيْدِيِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ: تیرا معیدی کو سننا اس کے دیکھنے سے بہتر ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کی خبر سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہو۔ سب سے پہلے یہ بات منذر بن ماء السماء نے کہی تھی جو شقہ بن ضمرہ معیدی کے متعلق باتیں سن کر خوش ہوتا تھا۔ شقہ بدصورت تھا اسے دیکھ کر یہ بات کہی جو اوپر مذکور ہے اور ضرب المثل بن گئی ہے)

❁ إذا لَمْ تُسْمِعْ فَأَلْمِعْ: جب تو سنا نہ سکے تو اشارہ ہی کر دیا کر۔ (یعنی اگر تو سنانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اشارہ کرنے سے تو عاجز نہیں۔

❁ إِسْمَعْ ولا تُصَدِّقْ: سن لے خواہ اسے سچا نہ سمجھے۔

❁ سَامِعًا دَعَوْتَ: تو نے سننے والے کو ہی پکارا ہے۔

❁ بَیْنَ سَمْعِ الْأَرْضِ وَ بَصَرِھَا: زمین کے کان اور آنکھ کے درمیان (یعنی چپ چپاتے۔ کہا جاتا ہے۔ کَانَ فِعلُ ذٰلِکَ بَیْنَ سَمْعِ الارضِ وِ بَصَرِھَا وہ کام ایسی جگہ ہوا جو خالی تھی اور وہاں کوئی نہ تھا)

❁ أَسْمَعُ مِنْ قُرَادٍ: چیچڑی سے زیادہ سننے والا۔ (کہا جاتا ہے کہ چیچڑی ایک دن کی مسافت سے اونٹوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر ان کی طرف چل پڑتی ہے)

❁ قَدِ اسْتَسْمَنْتَ ذَاوَرَمٍ: تو نے ورم والے کو موٹا سمجھ لیا ہے (اور اسے بڑا سمجھ بیٹھا ہے حالانکہ وہ بڑا نہیں اور خلاف حقیقت ظاہر سے دھوکا کھایا ہے)

❁ سَمْنُکُمْ هُرِیقَ فِی أَدِیمِکُمْ: تمہارا گھی تمہاری کھال میں ہی انڈیل دیا گیا ہے (مراد یہ ہے کہ تمہارا مال تم پر ہی خرچ کیا جاتا ہے اور تمہارا مال صرف تمہاری طرف ہی لوٹے گا اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کا مال دوسروں تک نہ پہنچ پائے اور اسی پر خرچ ہو)

❁ أَسْمَنُ مِنْ یَعْرٍ: یعر سے زیادہ موٹا (یعر ایک فربہ جانور)

❁ مَنْ لِی بِالسَّانِحِ بَعْدَ الْبَارِحِ: منحوس کے بعد میرے لئے کون مبارک ہوگا۔ (سانح دائیں طرف سے آنے والا۔ بارح بائیں طرف سے آنے والا۔ عرب سانح سے نیک فالی اور بارح سے بدفالی لیتے تھے۔ ناپسندیدہ چیز کے بعد محبوب چیز کی توقع یا بہتر حالات سے مایوسی کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

❁ کَانَ سِنْدَانًا فَصَارَ مِطْرَقَةً: وہ اہرن تھا، پھر ہتھوڑا بن گیا۔ (ایسے ذلیل کے متعلق کہا جاتا ہے جو معزز ہو جائے)

❁ إِذَا کُنْتَ سِنْدَانًا فَاصْبِرْ وإِذَا کُنْتَ مِطْرَقَةً فَأَوْجِعْ: اگر تو اہرن ہے تو صبر کر اور اگر ہتھوڑا ہے تو درد پہنچا۔

❁ أَسْهَرُ مِنَ النجم ستارے سے زیادہ جاگنے والا۔

❁ أَسْهَرُ مِنْ قُطْرُبٍ: قطرب سے زیادہ جاگنے والا۔ (قطرب ایک چھوٹا جانور ہے جو رات کو نہیں سوتا)

❁ سَهْمٌ لَکَ وَسَهْمٌ عَلَیْکَ: ایک تیر تیرے حق میں اور دوسرا تیر تیرے خلاف۔

❁ أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ إِجَابَةً: اس نے غلط سنا تو غلط ہی جواب دیا۔

❁ أَسَاءَ کَارِهٌ مَاعَمِلَ: ناپسند کرنے والے نے برا کام کیا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی کام پر مجبور کیا جائے تو وہ اسے اچھی طرح نہ کر سکے)

❁ أَسَاءَ رَعْیًا فَسَقَی: اس نے بری طرح چرایا پھر پانی بھی پلایا۔ (اصل اس کی یہ ہے کہ چرانے والے نے اونٹوں کو تھوڑا چرا کر جب انہیں ان کے مالکوں کے پاس واپس لانے کا ارادہ کیا تو اسے یہ بات اچھی نہ لگی کہ مالکوں کو اونٹوں پر اس کے برے اثرات کا پتہ چل جائے تو اس نے ان کو پانی پلا دیا تاکہ اونٹوں کے پیٹ پانی سے بھر جائیں۔ ایسے شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو کام صحیح نہ کرے اور پھر اس کو ٹھیک کرنا چاہے اور یوں اسے اور بھی زیادہ بگاڑ دے)

❁ سُوءُ الظَّنِّ مِنْ شِدَّةِ الضِّنِّ: بدگمانی انتہائی بخل کا نتیجہ ہوتی ہے (یہ عربوں کے اس قول جیسا ہے: إِنَّ الشَّفِیقَ بِسُوءِ ظَنٍّ مُوْلَعٌ مہربان شخص بدگمانی کے بارے میں بہت پرجوش ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھ کے معاملات کا خیال رکھتا ہو۔ اور اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہو کہ کہیں ساتھی کسی حادثہ کا شکار نہ ہو جائے جیسے ماؤں کے دل میں اپنی اولاد کے متعلق برے برے خیال آتے رہتے ہیں)۔

❁ سَیِّدُ الْقَوْمِ أَشْقَاهُمْ: قوم کا سردار اپنی قوم کا سب سے بڑا بدبخت ہوتا ہے۔ (کیونکہ وہ اپنے قبیلہ کے بغیر سختیوں کا حصہ دار بنتا ہے۔ ان میں سے کمزوروں کے لئے لڑتا ہے، بے کسوں کی بات کرتا ہے، اور ایسے کام کرنے کے لئے تیار رہتا ہے جو اس کا فرض نہیں ہوتا۔

❁ مَاکُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً: ہر سیاہ چیز کھجور نہیں ہوتی۔ (شک وشبہ کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ سیاہ چیز کھجور بھی ہو سکتی ہے، اور کوئلہ کا ٹکڑا بھی۔ ایسا ہی یہ مثل ہے۔ مَاکُلُّ بَیْضَاءَ شَحْمَةً۔ ہر سفید چیز چربی کا ٹکڑا نہیں ہوتی)

❁ لَوْذَاتُ سِوَارٍ لَطَمَتْنِی: کاش مجھے طمانچہ کسی کنگن والی نے مارا ہوتا۔ (یہ بات حاتم طائی نے اس وقت کہی تھی جب وہ بنی غزة کے پاس اس قیدی کی جگہ قید تھا جسے اس نے فدیہ دے کر چھڑایا تھا۔ اور ایک لونڈی نے اسے طمانچہ مارا تھا۔ عربوں کے ہاں لونڈیاں زیورات نہیں پہنتیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی آزاد عورت نے طمانچہ مارا ہوتا تو مجھے یہ معاملہ نسبتاً آسان ہوتا۔ یہ بہتر صورت کے حالات کے مقابلہ میں گھٹیا صورت اختیار کرنے پر یا کم رتبہ شخص کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔

❁ مَنْ سَاوَاكَ بِنَفْسِهِ مَاظَلَمَكَ: جس نے تجھے اپنے آپ کے برابر رکھا اس نے تجھ پر ظلم نہیں کیا۔

❁ سَاوَاكَ عَبْدُ غَیْرِكَ: تیرے غیر کا غلام تیرے برابر ہے (کیونکہ وہ تیری حکم بردار سے تیری طرح آزاد ہے اس مفہوم کے متعلق عوام کہتے ہیں۔ عَبْدُ غیرِكَ حُرٌّ مِثْلُكَ۔

❁ إِنِ اسْتَوَی فَسِکِّیْنٌ و إِنْ اعْوَجَّ فَمِنْجَلٌ: اگر وہ سیدھا ہو تو چھری ہے اور ٹیڑھا ہو جائے تو درانتی ہے۔

❁ سِرْ وَ قَمَرٌ لَكَ: چلا جا چاند تیری رہنمائی کے لئے ہے۔ (یعنی چاند نکلا ہوا ہو تو اس کی روشنی میں کام کرنے کو غنیمت جان۔ فرصت کو غنیمت جاننے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

❁ سِیرَةُ الْمَرْءِ تُنْبِئُ عَنْ سَرِیرَتِهِ: آدمی کی عادت اس کے چھپے ہوئے خیال کا پتہ دیتی ہے۔

❁ سَیْرَیْنِ فِی خُرْزَةٍ: دو تسمے ایک سوراخ میں۔ (سیرین کا نصب اس سے پہلے۔ اجمع محذوف سمجھے جانے کی وجہ سے۔ ایک پنتھ دو کاج)

سَالَ بِهِمُ السَّيْلُ وَجَاشَ بِنَا الْبَحْرُ: ان کو سیلاب بہا لے گیا اور ہم کو سمندر کی سخت تیزی۔ یعنی ہم ان سے بھی زیادہ شدید مصیبت میں پڑ گئے۔

سِيلَ بِهٖ وَهُوَ لَا يَدْرِي: اس کو بہا لے جایا گیا لیکن اسے خبر ہی نہیں (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے اس کی مخصوص چیزوں میں نقصان ہو جائے اور وہ غافل رہے۔

ش

أَشْأَمُ مِنْ بَرَاقِش: براقش سے زیادہ منحوس۔ (براقش اس کتیا کا نام ہے جو اس لشکر پر بھونکی تھی جو کتیا والوں کی تلاش میں تھا اور کتیا کے بھونکنے سے لشکر کو پتہ چل گیا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں)

أَشْأَمُ مِنَ الْبَسُوس: بسوس سے زیادہ منحوس۔ (بسوس منقذ تمیمیہ کی بیٹی تھی جو جساس بن مرہ بکری کی خالہ تھی۔ وہ اپنے پڑوسی کی اونٹنی کلیب بن وائل تغلبی کی چراگاہ میں چرا رہی تھی۔ کلیب نے اونٹنی کو تیر مارا بسوس نے جساس سے مدد طلب کی تو اس نے بڑھ کر کلیب کو قتل کر دیا۔ کلیب کا بھائی مہلہل بنی تغلب کے سردار کی حیثیت سے کلیب کے قصاص کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اس کے نتیجہ میں بکر اور تغلب کے درمیان جنگ چھڑ گئی جو چالیس سال تک جاری رہی۔ یوں بسوس نحوست میں ضرب المثل بن گئی)

أَشْأَمُ من حَفَّار: گورکن سے زیادہ منحوس۔ (حفار سے مراد حفار القبور ہے)

أَشْأَمُ مِنْ دَاحِس: داحس سے زیادہ منحوس (داحس قیس بن زہیر کا گھوڑا تھا (نحوست میں اس کے ضرب المثل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی وجہ سے ذبیان اور عبس کے درمیان جنگ چالیس سال جاری رہی)

أَشْأَمُ مِنْ رَغِيفِ الحَوْلَاءِ: حولاء کی روٹی سے زیادہ منحوس (حولاء ایک عرب عورت تھی ایک شخص نے اس کے سر سے ایک روٹی اچک لی تو اس نے کہا۔ بخدا تو نے ایسا کر کے فلاں کی توہین کرنا چاہا ہے، جو اس شخص کا پڑوسی تھا۔ اس سے ان لوگوں میں اشتعال پیدا ہو گیا، جس کے نتیجہ میں ان کے ایک ہزار انسان قتل ہوئے)

أَشْأَمُ مِنْ طُوَيْس: طویس سے زیادہ منحوس۔ (طویس کہا کرتا تھا: میں اس روز پیدا ہوا جس دن رسول اللہ نے وفات پائی۔ جس دن حضرت ابوبکرؓ کی وفات ہوئی اس دن میری ماں نے میرا دودھ چھڑایا۔ جس دن عمر بن خطابؓ کو شہید کیا گیا اس دن میں بالغ ہوا اور حضرت عثمانؓ کی شہادت کے دن میں نے شادی کی۔ اور حضرت علیؓ بن ابی طالب کی شہادت کے دن میرے ہاں بچہ پیدا ہوا)

أَشْأَمُ مِنْ عِطْرِ مَنْشِمَ: منشم کے عطر سے زیادہ منحوس (اس مثل کی اصل کے متعلق کہا گیا کہ منشم ایک عورت کا نام تھا جو خوشبو بیچا کرتی تھی۔ عرب اس کی خوشبو میں ہاتھ ڈبو کر عہد کرتے تھے کہ جس جنگ میں وہ جا رہے ہیں جان پر کھیل کر لڑیں گے حتیٰ کہ وہ قتل ہو جائیں۔ چنانچہ جب جنگ میں قدم رکھتے، کہا جاتا: دَقُّوا بينهم عِطْرَ مَنْشِمَ (انہوں نے اپنے درمیان منشم کا عطر ظاہر کیا۔ اس بات کے بکثرت کہنے سے یہ ضرب المثل بن گیا)

أَشْأَمُ مِنْ غُرَابِ الْبَيْنِ: جدائی کے کوے سے زیادہ منحوس۔ کوے سے یہ نام لازم و ملزوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب بدوی لوگ چراگاہ کی تلاش میں جدا ہونے لگتے تو کوے ان کے خیموں کی جگہ نیچے اتر کر کھانے کی اشیاء ڈھونڈنے لگتے۔ اس لئے اس سے بدفالی لے کر کوے کو غراب البین (جدائی کا کوا کہنے لگے۔ کیونکہ کوے ان کے خیموں کی جگہوں پر اس وقت اترا کرتے تھے جب وہ کسی جگہ سے جدا ہو کر کہیں جاتے)

مَنْ شَبَّ عَلَى خُلُقٍ شَابَ عليه: جس عادت پر کوئی جوان ہوا اسی پر بوڑھا ہو گیا۔

الشَّبَابُ مَطِيَّةُ الْجَهْلِ: جوانی جہالت کی سواری ہے۔ (یعنی جہالت جوانی کی منزل اور مشکوک مرکز ہے)

الشَّبْعَانُ يَفُتُّ لِلْجَائِعِ فَتًّا بَطِيئًا: پیٹ بھرا بھوکے کے لئے آہستہ آہستہ روٹی توڑتا ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو دوسرے شخص کے معاملہ کو کوئی اہمیت نہ دے اور نہ اس کا راستہ اختیار کرے۔

إِنَّ هَذَا الشِّبْلَ مِنْ ذَالِكَ الاسد: یہ بچہ بھی تو اسی شیر کا ہے۔

مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فما ظَلَمَ: جو اپنے باپ کے مشابہ ہوا اس نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ (اس لڑکے کے لئے کہا جاتا ہے جو ساخت اور طبیعت میں اپنے باپ جیسا ہو۔ (کیونکہ اس نے مشابہت کو غلط جگہ نہیں رکھا۔ کوئی بیٹے کی اپنے باپ سے مشابہت میں اس سے زیادہ مستحق نہیں۔

أَشْبَهُ مِنَ الماء بالماء: وہ اس سے زیادہ مشابہ ہے جتنا پانی پانی سے مشابہ ہے۔

إِنَّهُ لَأَشْبَهُ بِهٖ مِنَ التَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ: وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ مشابہ ہے جتنا ایک کھجور دوسری کھجور سے مشابہ ہوتی ہے۔ (دو چیزوں میں قریبی مشابہت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

مَا أَشْبَهَ حَجَلَ الجِبَالِ بِأَلْوَانِ صُخُورِهَا: پہاڑی تیتر پہاڑ کی چٹانوں کے رنگ سے کتنا مشابہ ہے۔

مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالبَارِحَةِ: آج کی رات گزشتہ رات سے کتنی مشابہ ہے۔ (آئندہ کی سابقہ سے مشابہت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

الشُّبْهَةُ أُخْتُ الحَرَامِ: شبہ حرام کی بہن ہے۔ (ان دو چیزوں کے لئے کہا جاتا ہے جن کے مابین زیادہ فرق نہ ہو)

يَشُجُّ مَرَّةً وَيَأْسُو أُخْرَى: ایک بار زخم لگاتا ہے دوسری بار غمخواری کرتا ہے۔ (یعنی کبھی زخمی کرتا ہے کبھی علاج کرتا ہے۔ احسان بھی کرتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے)

أَشْجَعُ مِنْ لَيْثٍ: شیر سے زیادہ بہادر

❁ أشجع مِنْ اُسامة: شیر سے زیادہ بہادر(اسامہ، شیر کا اسم علم ہے)

❁ الشجاع موقّى: بہادر کی اذیت سے بچا جاتا ہے(اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بہادری اور جرأت سے پہچانا جاتا ہو لوگ اس سے خوف کھانے کی وجہ سے اس سے بچتے ہیں۔اس معنی میں ایک شاعر کا قول ہے

تعْدُو الذئابُ علَى مَنْ لاكِلابَ لهٗ

وتتقى مَرْبَضَ المُستنفِرِ الحامِي

جس کے پاس کتے نہ ہوں اس پر بھیڑیئے حملہ کردیتے ہیں اور اس باڑہ سے بچتے ہیں جو بچانے والے کا ہو۔

❁ إنْ لَمْ يَكُنْ شَحْمٌ فنَفَش: اگر چربی نہ ہو تو اون ہی سہی (نفش بمعنی اون یعنی اگر فعل نہیں تو دکھلاوا ہی ہو یعنی حقیقت کو نظر انداز کر کے نظر بظاہر بھلائی کا اظہار)

❁ شُخْبٌ فى الإنا و شُخْبٌ فى الأرْض: دودھ کی ایک دھار برتن میں اور ایک زمین پر(اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کبھی درست کام کرے کبھی غلط۔اس مثل کی اصل اس دودھ دوہنے والے کے بارے میں ہے جو کبھی غلطی سے ایک دھار زمین پر گرائے اور کبھی صحیح طور پر برتن میں۔الشخب دودھ کی تھن سے نکلنے والی دھار۔

❁ ولمّا اِشتَدَّ ساعِدُهٗ رمانى: جب اس کی کلائی مضبوط ہوگئی تو اس نے مجھے ہی تیر مارا(اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس سے احسان کیا گیا ہو اور وہ احسان کرنے والے کو نقصان پہنچائے۔اس شعر کا پہلا مصرعہ یوں ہے۔

اُعَلِّمُهُ الرِّمايَةَ كُلَّ يَوْمٍ میں اسے ہر روز تیراندازی سکھایا کرتا تھا)

❁ أشَدُّ حُزْنًا مِنَ الخنساء علَى صخر: صخر پر غم کرنے والی خنساء سے بھی زیادہ غمگین(صخر ابن عمر سلیمی نے بنی اسد پر حملہ کیا تھا اس دوران سے اسے تیر لگا جس سے بیمار ہو کر مر گیا۔اس کی بہن خنساء نے اس کی قبر پر ڈیرہ جمالیا جہاں وہ اس پر روتی رہتی اور آہ وپکار کرتی اور درد ناک مرثیے کہے اور وہیں مرگئی)

❁ للشّدائِد تُذْخَرُ الرِّجالُ: سختیوں کے لئے مردوں کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔

❁ عِندَ الشّدائِدِ تَذهَبُ الأحْقادُ: مصائب کے وقت دشمنیاں جاتی رہتی ہیں۔

❁ عِندَ الشّدائِدِ تُعْرَفُ الإخْوانُ: سختیوں کے وقت ہی بھائیوں کی پہچان ہوتی ہے۔

❁ شرُّ أيّامِ الدِّيكِ يَوْمَ تُغْسَلُ رِجلاهُ: مرغ کا بدترین دن وہ ہوتا ہے جس دن اس کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں(یہ اس وقت ہوتا جب مرغ ذبح کرنے کے بعد بھوننے کے لئے تیار کیا جاتا ہے)

❁ شرُّ الرّأيِ الدَّبَرِيُّ: بدترین رائے وہ ہے جو بعد میں سوجھے جب وقت گزر چکا ہو)

❁ شرُّ الشّدائِدِ مايُضْحِكُ: بدترین سختی وہ ہے جو ہنسائے۔(اس سختی کے لئے کہا جاتا ہے جو بے وقت اور غلط طور پر آئے اور سختی میں مبتلا اس پر ششدر ہو اور اس کی ہنسی اڑائی جائے)۔

❁ شرٌّ مِنَ الشّرِّ فاعِلُهٗ: برائیوں میں سے ایک برائی خود برائی کرنے والا ہے۔(بلائے ناگہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ شرُّ النّاسِ مَنْ يَتّقِيهِ النّاسُ: بدترین شخص وہ جس سے لوگ خود کو بچائیں۔

❁ شرٌّ مِنَ المَوْتِ مايُتَمَنّٰى مَعَهُ المَوْتُ: موت سے بری تو وہ مصیبت ہے جس پر موت کی تمنا کی جائے۔

❁ شرُّ النّاسِ مَنْ داراهُ النّاسُ لِشَرِّهٖ: بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لئے لوگ اس کی خوشامد کریں۔

❁ شرُّ النّاسِ مَنْ لايُبالِي أن يَراهُ النّاس مُسِيئًا: بدترین شخص وہ ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اسے بدی کرتے ہوئے دیکھ لیں گے۔

❁ الشّرُّ أخْبَثُ ما اَوْعَيْتَ مِنْ زادٍ: برائی ہی وہ سب سے برا توشہ ہے جو تو نے ساتھ رکھا۔(تحقیر اور برائی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔شعر کا پہلا مصرعہ یہ ہے کہ: الخيرُ يَبْقى وإنْ طالَ الزمانُ بِهٖ (خیر باقی رہتی ہے، خواہ کتنا عرصہ ہی گزر جائے)

❁ الشّرُّ قليلُهٗ كثير: برائی تو تھوڑی بھی بہت ہے۔

❁ الشّرُّ لِلشّرِّ خُلِقَ: برائی تو برائی کے لئے ہی پیدا ہوئی ہے۔اسی طرح کا یہ مقولہ ہے۔الحَدِيدُ بِالحَدِيدِ يُفْلَحُ: لوہا لوہے سے کٹتا ہے۔

❁ إنَّ فِي الشّرِّ خِيارًا: برائی میں کچھ خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں(خیار خیر کی جمع ہے یعنی برائی میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔اس مثل کا معنی عربوں کے اس قول کے مفہوم کے مشابہ ہے۔بعضُ الشّرِّ اهْوَنُ مِنْ بعض: کچھ شر دوسرے شر سے چھوٹے ہوتے ہیں(خیار اختیار کا اسم بھی ہو سکتا ہے۔اس صورت میں معنی ہوں گے کہ برائی میں ایسی برائی بھی ہوتی ہے جسے چن کر دوسری برائی پر ترجیح دی جائے)

❁ بَعْضُ الشّرِّ اَهْوَنُ مِنْ بعض: بعض شر دوسرے شر سے چھوٹا ہوتا ہے۔یعنی برائی چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی)

❁ لِكُلِّ شرٍّ باعِثٌ: ہر برائی کا کوئی محرک ہوتا ہے۔

❁ لاتَشْرَبِ السّمَّ اِتّكالاً على التِّرياق: تریاق پر بھروسہ کر کے زہر نہ پی۔

❁ أشْرَبُ مِنَ الهِيمِ: پیاسے اونٹوں سے بھی زیادہ پینے والا(هيم: پیاسے اونٹ اهيم وهيماء کی جمع ہے جو هيام سے مشتق ہے بمعنی سخت پیاس)

❁ أشْرَبُ مِنَ الرَّمْلِ: ریت سے زیادہ پینے والا۔

❁ أشْرَبُ مِنَ القِمَعِ: قیف سے زیادہ پینے والا۔

❁ الشَّرطُ أَمْلَكُ عَلَيْكَ أَمْ لَكَ: مخالف یا موافق شرط زیادہ لازمی ہے۔ (بھائیوں کے درمیان شرط کی حفاظت کے بارے میں کہا جاتا ہے۔)

❁ شَرْعُكَ مَابَلَّغَكَ المَحَلَّ: تیرے لئے اتنا زادراہ کافی ہے جو تجھے منزل مقصود تک پہنچادے۔ (آسان چیز پر اکتفا کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ إِنَّ الشِّرَاكَ قُدَّ من أَدِيْمِهِ: تسمہ اپنی کھال سے ہی کاٹا گیا ہے۔ دو باہم مشابہ اور قریبی چیزوں کے لئے کہا جاتا ہے۔ شراک جوتے کے تسمہ کو کہا جاتا ہے جو قدم کے پچھلے حصہ پر ہوتا ہے۔

❁ مَنْ إِشْتَرَى الحَمْدَ لَمْ يُغْبَنْ: جس نے تعریف خریدی وہ خسارہ میں نہ رہا۔

❁ مَنْ يَشْتَرِي سَيْفِي وَهٰذَا أَثَرُهُ: میری تلوار کون خریدے گا اور یہ اس کا اثر ہے؟ (یہ حرث بن ظالم مری کا مقولہ ہے۔ نعمان نے اس کی گرفتاری کے لئے کچھ سوار بھیجے جنہوں نے اسے جالیا حرث کو ان پر افسوس ہوا بہرحال اس نے کچھ سوار قتل کردیئے سواروں نے اسے نرغہ میں لے لیا۔ حرث ان میں سے جس گروہ کا رخ کرتا انہیں منتشر کردیتا اور جس سوار سے سامنا ہوتا اسے قتل کر ڈالتا اور ساتھ ہی یہ مقولہ کہتا جاتا۔ آخر یہ لوگ اس سے ہٹ کر نعمان کے پاس چلے گئے۔ اس چیز سے بچنے کے لئے کہا جاتا ہے جس جیسی چیز سے ایک بار پہلے تکلیف اٹھانی پڑی ہو)

❁ أَلَا مَنْ يَشْتَرِي سَهَرًا بِنَوْمٍ: کیا کوئی ایسا شخص ہے جو نیند کے بدلے بیداری خرید لے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو نصیحت کی ناشکری کرے اور عافیت کو ناپسند کرے)

❁ إِشْتَرِ لِنَفْسِكَ وَلِلسُّوقِ: اپنے لئے اور بازار کے لئے خرید (یعنی ایسی چیز خرید جسے روک کر اس سے فائدہ اٹھائے اور اگر اسے رکھنا نہ چاہے اور اسے بیچ دے تو دام کھرے کرلے)

❁ الشَّعِيرُ يُؤْكَلُ وَيُذَمُّ: جو کھایا بھی کھایا جاتا ہے اور اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے۔ (محسن کی مذمت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ شُعَاعُ الشَّمْسِ لَا يُخْفَى وَنُورُ الحَقِّ لَا يُطْفَى: آفتاب کی کرنیں چھپائی نہیں جاسکتیں اور حق کے چراغ کو بجھایا نہیں جاسکتا۔

❁ إِنْ يَكُنِ الشُّغْلُ مَجْهَدَةً فَإِنَّ الفَرَاغَ مَفْسَدَةٌ: شغل اگر مشقت میں ڈالتا ہے تو بیکاری باعث فساد ہے)

❁ إِنَّ الشَّفِيقَ بِسُوءِ ظَنٍّ مُوْلَعٌ: یقیناً مہربان برے گمانوں کا گرویدہ ہوتا ہے۔ (یعنی محبت کی زیادتی بدگمانی کا باعث ہوتی ہے۔

❁ شَفَيْتُ نَفْسِي وَجَدَعْتُ أَنْفِي: میں نے اپنے نفس کو شفا دی مگر اپنی ناک کاٹ لی۔ یہ بات وہ شخص کہتا ہے جس نے ایک پہلو سے تو مراد پالی ہو لیکن دوسرے پہلو سے اسے ناپسندیدہ چیز سے پالا پڑے)

❁ شَقَّ فُلَانٌ عَصَا قَوْمِهِ: فلاں شخص نے اپنی قوم میں اختلاف کا بیج بودیا۔ (یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص قوم میں تفرقہ پیدا کردے (اصل یہ ہے کہ عصا قوم کے اتحاد و ہم آہنگی کے مترادف ہے جماعت میں نااتفاقی ہو تو عصا نہیں کہلاتی)

❁ مَا يُشَقُّ غُبَارُهُ: اس کا غبار چیرا نہیں جاسکتا۔ (فاتح سبقت لے جانے والے کے لئے کہا جاتا ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے جس کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی ہمسر نہ ہو۔ غبار چیرنے سے مراد بہت تیز دوڑنا کہ کوئی اس کی گرد کو بھی نہ پاسکے)

❁ شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ: اونٹ کے منہ کا جھاگ ہے کہ پہلے آواز نکالی پھر ساکن ہوگیا۔ شقشقہ جھاگ جو اونٹ جوش میں بلبلاتے ہوئے نکالتا ہے)

❁ إِنَّ الشَّقِيَّ تَرَى لَهُ أَعْلَامًا: تو بدبخت کی تمام علامتیں دیکھ لے گا۔ (یعنی بدبخت کی بدبختی کی علامتیں اس پر ظاہر ہوتی ہیں)

❁ إِنَّ الشَّقِيَّ وَافِدُ البَرَاجِمِ: بیشک بدبخت براجم کا آنے والا ہے۔ (براجم حنظلہ بن مالک بن عمرو بن تمیم کے پانچ بیٹے تھے۔ یہ مثل کہنے والا عمرو بن ہند ہے جو عراق کا بادشاہ تھا۔ سوید بن ربیعہ تمیمی اس کے بھائی کو قتل کرکے بھاگ گیا تھا۔ بادشاہ نے عہد کیا کہ وہ بنی تمیم کے ایک سو مردوں کو قتل کرے گا اور ان کو ڈھونڈ نکالنے کا اہتمام کیا اور ان کے 99 آدمی قتل کردیئے اور آخری ایک کی تلاش میں تھا کہ براجم میں سے ایک شخص سفر پر تھا اسے اس بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ بادشاہ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے دھواں نظر آیا اس نے خیال کیا کہ وہاں کھانا مل جائے گا چنانچہ وہ قریب آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں براجم میں سے ہوں۔ بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور کہا: بے شک بدبخت براجم کا آنے والا شخص ہے۔

❁ لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ: جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔

❁ أَشْكَرُ مِنْ كَلْبٍ: کتے سے زیادہ شکر گزار۔ (کتے کے بارے میں ایک عرب ادیب کا قول ہے: کتا اپنی ایذا کو مجھ سے روکتا ہے اور دوسرے کی ایذا سے مجھے بچاتا ہے میرے تھوڑے سے کھانے کا شکر کرتا ہے، اور میری شب باشی اور قیلولہ کرنے کی جگہ کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ جانوروں میں سے میرا خاص دوست ہے)۔

❁ أَشْكَرُ مِنْ بَرْوَقَةٍ: وہ بروقہ سے بھی زیادہ شکر گزار ہے۔ (بروقہ ایک چھوٹا سا پودا جو تھوڑی سی بارش سے سرسبز ہوجاتا ہے اور کبھی بغیر بارش ہرا بھرا ہوجاتا ہے بلکہ گھٹا اٹھنے پر اگ آتا ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو احسان پر شکر اور تعریف کرنے میں جلدی کرتا ہے یا اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو تھوڑے سے انعام ملنے پر ممنونیت کا اظہار کرے)۔

❁ تَشْكُو إِلَى غَيْرِ مُصْمِتٍ: تو اس شخص سے شکایت کرتا ہے جو تیری آواز نہیں سنتا (یعنی تیرے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا)

❁ الشَّمَاتَةُ لُؤْمٌ: دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونا کمینہ پن ہے (یعنی کسی کی مصیبت پر وہی خوش ہوتا ہے جو کمینہ اصل ہو)

❁ لِكُلِّ شَمْسٍ مَغْرِبٌ: ہر سورج کو ڈوبنا ہے۔

❁ مَالِي بِشَمْسٍ لاتُدَفِّئُنِي: جو سورج مجھے گرم نہیں کرتا وہ میرا نہیں۔

❁ هُوَ عِنْدِيْ بِالشِّمَالِ: وہ میرے نزدیک بائیں طرف ہے۔ (یعنی کم رتبہ ہے)

❁ رُبَّ شَانِئَةٍ أَحْفَى مِن اُمّ: بہت سی دشمن عورتیں ماں سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ (یعنی وہ تمہارے عیبوں کی تلاش میں رہتی ہیں اور تم پر انہیں ظاہر کرتی ہیں جن کی وجہ سے تم شائستہ اخلاق ہو جاتے ہو۔ ان کی فکر مندی ماں کی فکر مندی سے زیادہ ہوتی ہے جو تمہارے عیوب کو چھپاتی ہے اور تم ان عیوب کو دور نہیں کرتے)

❁ شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَمَ: یہ عادت مجھے اخزم سے معلوم ہوئی تھی (یہ ابو اخزم طائی کا قول ہے۔ اس کے ایک بیٹے کا نام اخزم تھا۔ اخزم نافرمان تھا۔ مرنے پر بیٹے چھوڑے۔ جو ایک روز اپنے دادا ابو اخزم پر جھپٹے اور اسے زخمی کر دیا اس موقع پر ابو اخزم نے کہا:
إنَّ بَنِيَّ ضَرَّجُونِي بالدم شِنْشِنَةٌ اعرفها من اخزم (میرے بچوں نے مجھے خون آلود کر دیا یہ عادت مجھے اخزم سے معلوم ہوئی تھی۔ یعنی میرے یہ پوتے اپنے باپ کی طرح نافرمان ہیں۔ شِنْشِنَةٌ: بمعنی عادت، طبیعت)

❁ شَاهِدُ الثَّعْلَبِ ذَنَبُهُ: لومڑی کا گواہ تو اس کی دم ہے۔

❁ شَاهِدُ البُغْضِ النَّظَرُ: بغض کا گواہ اس کی نگاہ ہے۔

❁ شَهَادَاتُ الْفِعَالِ خَيْرٌ من شهاداتِ الرجال: کاموں کی گواہیاں جنہیں کوئی شخص کرے ان مردوں کی گواہیوں سے بہتر ہیں۔

❁ أَشْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ: سورج سے زیادہ مشہور۔

❁ اشْهَرُ مِنَ القَمَرِ: چاند سے زیادہ مشہور۔

❁ أَشْهَرُ مِنَ البَدْرِ: ماہ تمام سے زیادہ مشہور۔

❁ أَشْهَرُ مِنَ الصُّبْحِ: صبح سے زیادہ مشہور۔

❁ أَشْهَرُ مِن فَلَقِ الصُّبحِ: ظہور صبح سے زیادہ مشہور۔

❁ أَشْهَرُ مِن عَلَمٍ: پہاڑ یا جھنڈے سے زیادہ مشہور۔

❁ أَشْهَرُ مِن نارٍ على عَلَمٍ: پہاڑ پر آگ سے زیادہ مشہور۔ (علم بمعنی بلند پہاڑ)

❁ اشْهَرُ مِنَ الأَبْلَقِ: ابلق سے زیادہ مشہور۔ (ابلق: یہ دوز کا گھوڑا سیاہ وسفید رنگ کا اور زانوں تک سفید تھا)

❁ أَتَشْتَهِي وتَشْتَكِي: کیا تو چاہتا بھی ہے اور شکایت بھی کرتا ہے۔ (یعنی پہلے طلب کرتا ہے اور مطلوبہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی شکایت کرتا ہے)

❁ مِنْ شَهْوَةِ التَّمرِ يُمَصُّ النَّوَى: کھجور کی خواہش سے گٹھلی چوسی جاتی ہے۔

❁ شُبْ شَوْبًا لَكَ بَعْضُهُ: ملانے والی چیز کو ملا جس میں تیرا حصہ ہو (شاب يشوب الشي: چیز کو ملانا۔ خلط ملط کرنا، مراد ایسا کام کر جس میں تیرا حصہ ہو۔ اس شخص کی اعانت پر اکسانے کے بارے میں بولا جاتا ہے جس سے تجھے فائدہ پہنچے۔ یہ عربوں کے اس قول کے مانند ہے۔ اُحْلُبْ حَلَبًا لك شَطْرُهُ۔ اچھی طرح دودھ تیرا بھی حصہ اس میں ہے)

❁ إذَا شَاوَرْتَ العَاقِلَ صَارَ عَقْلُهُ لَكَ: جب تو عقلمند سے مشورہ کرے گا تو اس کی عقل تیری عقل ہو جائے گی۔

❁ شَوْفُ النُّحَاسِ يُظْهِرُ النُّحَاسَا: تانبے کو صیقل کرنے سے تانبا ظاہر ہو جاتا ہے۔ (شوف: صیقل کرنا۔ جلا دینا۔ مراد یہ ہے کہ تانبے کو صیقل کرنے اور جلا دینے سے اس کا تانبا ہونا ختم نہیں ہو جائے گا۔ بد اصل کے لئے کہا جاتا ہے جسے سخاوت پر اکسایا جائے تو وہ اسے پسند نہیں کرتا اور اپنی کمینگی ظاہر کر دیتا ہے)

❁ مِنَ الشَّوْكَةِ تخرجُ الوردةُ: کانٹے سے گلاب کا پھول نکلتا ہے۔

❁ الشَّاةُ المَذْبُوحَةُ لايُؤْلِمُهَا السَّلْخُ: ذبح کی گئی بکری کو کھال اتارنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔

❁ كُلُّ شَاةٍ تُنَاطُ بِرِجْلَيْهَا: ہر بکری کو اس کی ٹانگوں کے بل لٹکایا جاتا ہے (مراد کسی کو دوسرے کے جرم میں سزا نہیں دی جاتی۔ تُنَاطُ کا معنی وہ لٹکائی جاتی ہے)

❁ باتَ يشوِيُ القَرَاحَ: وہ خالص پانی کو بھونتا رہا (قراح سے مراد ماء قراح (خالص بے ملاوٹ پانی ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کی حالت خراب ہو، مال ختم ہو گیا ہو تو وہ پکانے کی خواہش میں پانی کو بھوننے لگے)

❁ كُلُّ شَيْءٍ وثَمَنُهُ: ہر چیز کے ساتھ اس کی قیمت ہے (یعنی ہر چیز کی ایک قیمت ہے)

❁ لايَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى يَشِيْبَ الغرابُ: یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کوا سفید نہ ہو جائے۔ اسی مفہوم کا حامل یہ مقولہ بھی ہے حَتَّى يَبِيْضَ الفارُ (جب تک چوہا انڈا نہ دے، یاحَتَّى يَلِجَ الجملُ فی سَمِّ الإبرة جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا)

❁ شَيْبُكَ نَاعِيْكَ: تیرے بالوں کی سفیدی تیری موت کی اطلاع دینے والی ہے (ناعی موت کی اطلاع دینے والا۔ یعنی تیرے بالوں کی سفیدی تیری موت کے قریب آ جانے سے باخبر کرتی ہے)

ص

❁ صُبَابَتِي تَرْوِي ولَيْسَتْ غَيْلاً: میرا تلچھٹ سیراب کرتا ہے مگر وہ زمین پر بہنے والا پانی نہیں۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے کہ جسے اپنی کوششوں سے فائدہ ہو رہا ہو۔ خواہ تھوڑا ہی)

❁ عِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرٰى: قوم صبح کے وقت رات میں چلنے کی تعریف کرتی ہے (سریٰ: رات کو چلنا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو آرام کی امید میں مشقت برداشت کرے نیز اس چیز کے لئے بھی کہا جاتا ہے جو مشقت سے حاصل ہو اور تھکاوٹ سے پہنچے۔

❁ مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ: جس نے صبر کیا کامیاب ہوا۔

❁ الصَّبْرُ حِيْلَةُ مَنْ لَاحِيْلَةَ لَهٗ: صبر اس کا حیلہ ہے جس کا کوئی حیلہ نہ ہو۔

❁ الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ: صبر کشادگی کی کنجی ہے۔

❁ أَصْبَرُ مِنَ الْوَتِدِ على الذُّلِّ: ذلت پر میخ سے زیادہ صابر۔

❁ أَصْبَرُ مِنَ الْأَرْضِ: زمین سے زیادہ صابر۔

❁ الصَّبِيُّ أَعْلَمُ بِمَصْغِ فِيْهِ: بچہ اپنے منہ کے چبانے کو خوب جانتا ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے ایسے کام کا مشورہ دیا جائے جسے وہ اچھی طرح جانتا ہو کہ صحیح نہیں)

❁ وَرُبَّمَا صَحَّتِ الْأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ: کبھی جسم بیماریوں سے تندرست بھی ہو جاتے ہیں۔

❁ صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَعْمٰى: ضرورت مند اندھا ہوتا ہے۔

❁ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرٰى بِالَّذِيْ فِيْهِ: گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا کچھ ہے۔

❁ صَحِيْفَةُ الْمُتَلَمِّسِ: متلمس کا خط (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو خود فریبی میں مبتلا ہو کر ہلاکت میں پڑے۔ مشہور شاعر متلمس اور اس کا بھانجہ طرفہ حیرہ کے بادشاہ عمرو بن ہند کے پاس وفد بن کر آئے اور اس کے مقرب کے ہاں مہمان اترے۔ دونوں مقرب کے ہمراہ شکار کے لئے جاتے تمام دن دوڑتے اور تھک جاتے۔ بادشاہ پیتا تو وہ دونوں اس کے دروازے پر دن بھر کھڑے رہتے اور اس تک نہ پہنچ پاتے۔ طرفہ نے تنگ آ کر مشہور شعروں میں بادشاہ کی ہجو کی۔ جب عمرو بن ھند تک یہ بات پہنچی تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا اسے یہ خوف تھا کہ کہیں متلمس بھی اس کی ہجو نہ کر ڈالے چنانچہ ان دونوں سے کہا۔ تم اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتے ہو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو بادشاہ نے دو خط لکھ کر اور سربمہر کر کے انہیں دیئے اور کہا کہ میرے بحریہ کے گورنر کے پاس جاؤ میں نے اسے حکم دے دیا ہے کہ تمہیں انعام دے۔ راستہ میں دونوں کا ایک بوڑھے کے پاس سے گزر ہوا، جو پاخانہ کرتا کھجور کھاتا اور جوئیں مارتا تھا۔ متلمس نے کہا: میں نے اس سے زیادہ بے وقوف کوئی بوڑھا نہیں دیکھا۔ یہ سن کر بوڑھے نے کہا۔ تم نے میری کیا بے وقوفی دیکھی؟ میں تو خراب چیز نکالتا، پاکیزہ چیز داخل کرتا اور دشمن کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ بیوقوف تو وہ ہے جو اپنے ہاتھ میں اپنی موت اٹھائے ہوئے ہے اور جانتا نہیں۔ متلمس اس کی بات سے شک میں پڑ گیا۔ اسی اثناء میں حیرہ کا ایک غلام وہاں آ گیا۔ متلمس نے اسے سے پوچھا: پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں پھر غلام نے خط کی مہر توڑ کر پڑھا تو اس میں لکھا پایا: متلمس آئے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے زندہ دفن کر دیا جائے)۔

❁ تَصْدَأُ الْقُلُوْبُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ: دل اس طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔

❁ صَدْرُكَ أَوْسَعُ لِسِرِّكَ: تیرا سینہ ہی تیرے راز کے لئے وسیع تر ہے۔ (راز پوشیدہ رکھنے پر اکسانے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنا راز کسی پر فاش نہ کرے۔ کیونکہ تو راز افشانہ کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔ اگر تیرا سینہ راز سے تنگ ہو جائے تو دوسرا تو تجھ سے بھی زیادہ تنگ ہو گا یعنی جلد راز اگل دے گا۔

❁ صُدُوْرُ الْأَحْرَارِ قُبُوْرُ الْأَسْرَارِ: شریفوں کے سینے رازوں کی قبریں ہوتے ہیں۔

❁ صَادَفَ دَرْءُ السَّيْلِ دَرْءًا يَصْدَعُهٗ: سیلاب کی رکاوٹ ایسی رکاوٹ سے ٹکرائی جو سیلاب کی رکاوٹ کو توڑ ڈالے (درء: دور کرنا دفاع کرنا۔ مراد یہ ہے کہ برائی ایسی برائی سے ٹکرائی جو اس پر غالب ہو جائے۔ یہ ایسا یہ مقولہ ہے جیسے کہا جاتا ہے۔ الحدید بالحدید یفلح: اس کا مفہوم پہلے بیان کیا جا چکا ہے)

❁ مَنْ صَدَقَ اللّٰهَ نَجَا: جو اللہ کے ساتھ سچا رہا اس نے نجات پائی۔ (یعنی جو اللہ سے سچائی سے ملا۔ بایں معنی کہ اس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے، اس نے نجات پائی)

❁ الصِّدْقُ يُنْبِئُ عَنْكَ لَا الْوَعِيْدُ: سچائی نہ کہ دھمکی تیری خبر دے گی۔ (یعنی دشمن کا سچا مقابلہ اسے تیری خبر دے گا نہ کہ اسے تیرا دھمکی دینا۔ بزدل کے لئے کہا جاتا ہے جو دھمکی دے کر اس پر عمل نہ کرے)

❁ أَصْدَقُ مِنْ لَفْظٍ لَحْظٌ: بات سے زیادہ سچی نگاہ ہے۔

❁ أَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا: قطا سے زیادہ سچا۔ (قطا: بھٹ تیتر۔ شکار میں اس کی مثل بیان کی جاتی ہے کیونکہ وہ قطا قطا پکار کر اپنی سچی خبر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرب اس کی مثال دیتے ہیں کیونکہ اس کی ایک ہی آواز ہے جسے وہ تبدیل نہیں کرتا)۔

❁ صَرَّحَ الْمَحْضُ عَنِ الزُّبْدِ: خالص چیز جھاگ سے الگ ہو گئی۔ (ایسے معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جس کی پوشیدگی ظاہر اور واضح ہو جائے۔ صَرَّحَ الامر: واضح ہونا، ظاہر ہونا۔

❁ عِنْدَ التَّصْرِيْحِ تُرِيْحُ: بات کھلنے پر تو راحت پائے گا۔

❁ الصَّرِيْحُ تَحْتَ الرَّغْوَةِ: صاف چیز جھاگ کے نیچے ہے۔ (معاملہ پوشیدہ ہے جلد ظاہر ہو جائے گا)

❁ مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرَعَهٗ: جو حق سے کشتی لڑے گا حق اس کو پچھاڑ دے گا۔

❁ لِكُلِّ صَارِمٍ نَبْوَةٌ وَلِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٌ وَلِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ: ہر تلوار کبھی اچٹ جاتی ہے، ہر گھوڑا کبھی ٹھوکر کھاتا ہے اور ہر عالم سے بھی لغزش ہو جاتی ہے۔

❁ أَصْعَبُ مِنْ رَدِّ الشَّخْبِ فِي الضَّرْعِ: دودھ کی دھار کو تھن میں لوٹا دینے سے زیادہ مشکل۔

❁ كَصُفَيْحَةِ الْمِسَنِّ تَشْحَذُ وَلَا تَقْطَعُ: سان کے پتھر کی طرح دھار کو تیز کرتا ہے مگر کاٹتا نہیں۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو لوگوں کو تو نصیحت کرے لیکن خود اپنا کام اچھی طرح نہ کرے۔

❁ صَفْقَةٌ لَمْ يَشْهَدْهَا حَاطِبٌ: ایسا سودا جس میں حاطب موجود نہیں تھا۔ (حاطب بن ابی بلتعہ مراد ہے۔ جو بڑا محتاط اور عقلمند شخص تھا۔ اس کی قوم کا کوئی شخص خرید و فروخت کرتا سودا اس کے ہاتھوں طے ہوتا تا کہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ایک نے حاطب کے بغیر ہی سودا کر لیا جس میں اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ تو مذکورہ بالا مقولہ کہا گیا۔ اس پر یہ ضرب المثل بن گیا۔ اور ہر ایسے معاملہ کے لئے بیان کیا جانے لگا جو اس کے ماہر کے بغیر انجام پائے)

❁ أَصْفَى مِنَ الدَّمْعَةِ: آنسو سے زیادہ صاف۔

❁ أَصْفَى مِنْ عَيْنِ الدِّيكِ: مرغ کی آنکھ سے زیادہ صاف۔

❁ أَصْفَى مِنْ جَنَى النَّحْلِ: خالص شہد سے زیادہ صاف۔ (جنی النحل بمعنی مکھی کا شہد)

❁ أَصْلَحَ غَيْثٌ مَا أَفْسَدَ الْبَرْدُ: بارش نے اس چیز کو درست کر دیا جسے سردی نے خراب کر دیا تھا۔

❁ وَهَلْ يُصْلِحُ الْعَطَّارُ مَا أَفْسَدَ الدَّهْرُ: جسے زمانہ نے خراب کر دیا ہو اسے بھلا عطار کیا درست کرے گا۔

❁ لَا يُصْلِحُ رَفِيقًا مَنْ لَمْ يَبْتَلِعْ رِيقًا: اس شخص میں رفیق ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی جو غصے کے تھوک کو بھی نہ نگل سکے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو غصہ کو پی جائے)

❁ مَا لَا يَصْلُحُ تَرْكُهُ أَصْلَحُ: جو درست نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہے۔

❁ أَصْلِحْ نَفْسَكَ يَصْلَحْ لَكَ النَّاسُ: اپنے آپ کو درست کر، لوگ تیرے لئے ٹھیک ہو جائیں گے۔

❁ رُبَّ صَلَفٍ تَحْتَ الرَّاعِدَةِ: بسا اوقات کنجوسی اور ڈینگ کڑکنے والے بادل کے نیچے ہوتی ہے۔ (اس کنجوس کے لئے کہا جاتا ہے جو مالدار ہو، یا جو کہتا تو بہت کچھ ہو مگر کرتا کچھ نہ ہو یا جو اپنی دھمکی پر عمل نہ کرتا ہو یا جو اپنی بہت تعریف کرتا ہو لیکن بھلائی سے خالی ہو)

❁ أَصَمُّ عَمَّا سَاءَهُ سَمِيعٌ: ان باتوں سے بہرا جو بدی اور غم میں ڈالنے والی ہیں اور ان باتوں کو سننے والا جو اس کو خوش کرتی ہیں۔ اس معنی میں کیا خوب کہا گیا ہے:

قُلْ مَا بَدَا لَكَ مِنْ زُوْرٍ وَمِنْ كَذِبٍ
حِلْمِي أَصَمُّ وَأُذْنِي غَيْرُ صَمَّاءَ

جو خیال میں آئے جھوٹ اور غلط کہہ دے
میرا تحمل بہرا ہے، مگر کان بہرے نہیں

❁ صَمْصَامَةُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ: عمرو بن معدی کرب کی تلوار۔ یہ عربوں کی ایک مشہور تلوار تھی۔ اور اپنے جوہر خوبصورتی اور کاٹ میں بے مثل تھی۔

❁ إِصْنَعْهُ صَنْعَةَ مَنْ طَبَّ لِمَنْ حَبَّ: اس کو ایسے بنا جیسے تجربہ کار آدمی اپنے محبوب کے لئے بناتا ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ہر چیز میں نفاست کا خواہاں ہو۔ مراد اس کو ایسا بنا جیسے ایک تجربہ کار شخص اپنے محبوب کے لئے بنایا کرتا ہے۔ طب الرجل کا معنی ہے آدمی کا تجربہ کار ہونا)

❁ أَصْنَعُ مِنَ النَّحْلِ: شہد کی مکھی سے زیادہ کاریگر۔

❁ أَصْنَعُ مِنْ دُودِ الْقَزِّ: ریشم کے کیڑے سے زیادہ کاریگر۔

❁ أَصَابَ تَمْرَةَ الْغُرَابِ: اسے کوے کی کھجور مل گئی۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو نفیس چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کیونکہ کوا نفیس ترین کھجور کا انتخاب کرتا ہے)

❁ مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ: ایک قوم کے مصائب دوسری قوم کے فائدے ہوتے ہیں۔

❁ لَيْسَ بِصِيَاحِ الْغُرَابِ يَجِيءُ الْمَطَرُ: کوے کے کائیں کائیں کرنے سے بارش نہیں آجاتی۔

❁ هَذَا يَصِيدُ وَهَذَا يَأْكُلُ السَّمَكَةَ: یہ مچھلیاں پکڑتا ہے یہ مچھلیاں کھاتا ہے۔ (ایک کی کمائی دوسرا کھاتا ہے)

❁ صَيْدَكَ لَا تُحْرَمْهُ: شکار کر کے اس سے محروم نہ ہو (یعنی اپنے شکار سے غفلت نہ کر (یہ بھی کہا جاتا ہے صَيْدُكَ إِنْ لَمْ تُحْرَمْهُ شکار تیرا ہے اگر تو اس سے محروم نہ ہو اور صَيْدُكَ فَلَا تُحْرَمْهُ شکار تیرا ہے لہذا اس سے محروم نہ رہ۔ یہ اس شخص سے کہا جاتا ہے جسے اکسایا جاتا ہے کہ اگر ہو سکے تو موقع سے فائدہ اٹھائے)

❁ كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا: ہر شکار گورخر کے پیٹ میں ہے (الفرا بمعنی گورخر۔ اس مثل کی اصل یہ ہے کہ تین افراد شکار کے لئے نکلے، ایک نے خرگوش، دوسرے نے ہرن اور تیسرے نے گورخر شکار کیا۔ پہلے دو شکاری خوش ہوئے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے۔ اس پر تیسرے شکاری نے کہا۔ ہر شکار گورخر کے پیٹ میں ہے یعنی یہ سب سے بڑا شکار ہے جو اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا تو یہ اسے ہر شکار سے دور کر دے گا)

❁ فِي الصَّيْفِ ضَيَّعْتِ اللَّبَنَ: تو نے دودھ تو گرمیوں ہی ضائع کر دیا۔ (تا تینوں حالتوں میں مکسور ہوگا خواہ مذکر، مونث یا جمع کو مخاطب بنایا جائے۔ کیونکہ مثل کی اصل اسی طرح بیان ہوئی ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی ایسی چیز کا طالب ہو جس کا وقت گزر چکا ہو۔ اس کی اصل یہ ہے کہ لقیط کی بیٹی دختنوس عمرو ابن عدس کی بیوی تھی جو بوڑھا تھا۔ دختنوس کو عمرو سے نفرت تھی عمرو نے اس کو طلاق دیدی اور اس سے ایک خوبرو جوان نے شادی کر لی۔ اس سال قحط پڑا تو اسے اپنے پہلے

شوہر کے پاس دودھ لینے کے لئے ایک آدمی بھیجا۔ تو عمرو نے جواب میں یہ بات کہی)

ض

❁ الضَجُورُ تَحْلُبُ العُلْبَةَ: تنگ آئی ہوئی اونٹنی بھی دودھ کا برتن بھر دیتی ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس سے کوئی چیز طلب کی جائے تو وہ نہ دے۔ ضجور اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو خوشی سے دودھ نہ دے۔ مراد یہ ہے کہ تنگ دلی اور عدم آمادگی کے باوجود اونٹنی دودھ سے برتن بھر دیتی ہے۔ تحلب العلبۃ برتن بھر دودھ دیتی ہے)

❁ اِضْطَرَّهُ السَّيْلُ اِلَى العَطَشِ: سیلاب نے اسے پیاس کی احتیاج سے دوچار کر دیا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے آسودگی تنگی پر مجبور کر دے۔ بددعا پر کہتے ہیں: رَمَاهُ اللّٰهُ بِالحِرَّةِ تَحْتَ القِرَّةِ اللہ تعالیٰ اسے سردی کے نیچے پیاس میں مبتلا کرے۔ حِرّة: پیاس۔ قِرّة: ٹھنڈ)

❁ لَا يَضُرُّ السَّحَابَ نَبْحُ الكِلَابِ: کتوں کا بھونکنا بادلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔

❁ الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ: ضرورتیں ممنوع اشیاء کو بھی جائز ٹھہراتی ہیں۔

❁ ضَرَبَ أَخْمَاسًا لِأَسْدَاسٍ: اس نے پانچویں دن کی باری والے اونٹوں کو چھٹے دن کی باری والے بنا دیا۔ (اخماس خمس کی جمع اور اسداس سدس کی جمع ہے، یعنی ایسے اونٹ جنہیں لمبے سفر کے لئے ہر پانچ دنوں میں ایک بار پھر ہر چھ دنوں میں ایک بار پانی پینے کا عادی بنایا گیا ہوتا کہ وہ اتنے پانی کو برداشت کر لیا کریں۔ مراد اونٹوں کے پانچ دن کے وقفہ سے چھ دن کے وقفہ تک بڑھا دیا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ساز باز کرے)

❁ إِذَا ضَرَبْتَ فَأَوْجِعْ وَإِذَا زَجَرْتَ فَأَسْمِعْ: وار کرے تو بھرپور اور جھڑکے تو اچھی طرح سنا دے (کام میں سختی اور کوتاہی اور عاجزی ترک کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ إِنَّكَ يَضْرِبُ فِي حَدِيدٍ بَارِدٍ: تو تو ٹھنڈا لوہا کوٹتا ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ایسے شخص سے فائدہ اٹھانا چاہے جس کے پاس فائدہ والی کوئی چیز نہ ہو)

❁ إِيَّاكَ أَنْ يَضْرِبَ لِسَانُكَ عُنُقَكَ: ایسی بات سے بچ جو تیری گردن مار دے۔ (ایسی بات منہ سے نہ نکال جس میں تیری ہلاکت ہو)

❁ ضَرْبُ الحَبِيبِ أَوْجَعُ: دوست کی مار زیادہ دکھ دیتی ہے۔

❁ ضِغْثٌ عَلَى إِبَّالَةٍ: گٹھری پر گٹھری (بد سے بدتر۔ مصیبت پر مصیبت۔ اِبالہ: گھاس یا لکڑی کا گٹھا۔ ضغث: مٹھی بھر تازہ اور خشک گھاس۔ یہ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھی پر مصیبت ڈالے اور پھر اسے اور بڑھا دے)

❁ قَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَتِ العُمْيَانُ تَهْدِيهِ: جس کی رہنمائی اندھے کرتے ہوں وہ راہ سے بھٹک گیا۔

❁ أَضَلُّ مِنْ ضَبٍّ: گوہ سے زیادہ گمراہ (کہا جاتا ہے کہ جب گوہ اپنے بل سے نکلے تو اسے بل میں واپس کی راہ نہیں ملتی)

❁ إِنَّمَا يَضِنُّ بِالضَّنِينِ: بخیل کے ساتھ ہی بخل کیا جاتا ہے۔ (اس کا معنی یہ ہے کہ جو تم سے بھائی چارہ رکھے اس سے بھائی چارہ رکھنا چاہئے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان عمدہ چیز میں بخل سے کام لیتا ہے۔ ضنین: وہ چیز جس کی نفاست کی وجہ سے اس کو دینے میں بخل کیا جائے)

❁ أَضِئْ لِي أَقْدَحْ لَكَ: تو میرے لئے روشنی کر میں تیرے لئے چقماق سے آگ نکالوں گا۔ (اعمال کے ساتھ بدلہ میں مساوات کے لئے کہا جاتا ہے۔ معنی ہے: تو میرے لئے ہو میں تیرے لئے ہو جاؤں گا۔ یا تو میرے لئے اس سے بھی زیادہ ہو جا جتنا میں تیرے لئے ہوں گا کیونکہ روشنی کرنا چقماق سے آگ نکالنے سے برتر ہے)

❁ لَا يَضِيعُ حَقٌّ وَرَاءَهُ طَالِبٌ: وہ حق ضائع نہیں ہوتا جس کے پیچھے طلب گار ہو۔

❁ لَمْ يَضِعْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ: تیرا وہ مال ضائع نہیں ہوتا جس نے تیری خیر خواہی کی۔

❁ أَضْيَعُ مِنْ سِرَاجٍ فِي شَمْسٍ: دھوپ میں چراغ سے زیادہ لاحاصل۔

❁ أَضْيَعُ مِنْ غِمْدٍ بِلَا نَصْلٍ: بغیر تلوار کی میان سے زیادہ بے کار۔

❁ أَضْيَعُ مِنْ قَمَرِ الشِّتَاءِ: جاڑوں کی چاندنی سے زیادہ بیکار (کیونکہ سردیوں کی چاندنی میں اس طرح نہیں بیٹھا جاتا جیسے گرمیوں کی چاندنی میں بیٹھا جاتا ہے)

❁ إِذَا ضَافَكَ مَكْرُوهٌ فَاقْرِهِ صَبْرًا: جب مصیبت تیری مہمان ہو تو صبر سے اس کی ضیافت کر۔

❁ أَضْيَقُ مِنْ ظِلِّ الرُّمْحِ: نیزے کے سائے سے زیادہ تنگ۔

ط

❁ تَطَأْطَأْ لَهَا تُخْطِئْكَ: مصیبت کے سامنے سر جھکا، اس کا نشانہ خطا جائے گا اور تجھ سے گزر جائے گا (ہاء: حادثہ (مراد مصیبت) کے لئے ہے۔ یہ عربوں کے اس مقولہ کی طرح ہے: دَعِ الشَّرَّ يَعْبُرْ، شر کو چھوڑ گزر جائے گا۔ شر (برائی) سے بچنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ طَبِيبٌ يُدَاوِي النَّاسَ وَهُوَ مَرِيضٌ: یہ ڈاکٹر لوگوں کا علاج کرتا

ہے جبکہ خود بیمار ہے۔

❁ یاطَبِیبُ طِبَّ نَفْسَکَ: ڈاکٹر صاحب اپنا علاج کرائیں۔

❁ الطَبعُ أَغْلَبُ: طبیعت زیادہ غالب ہے۔

❁ طَرْفُ الفَتٰی یُخْبِرُ عن جنانِهِ: جوان کی نگاہ اس کے دل کی خبر دیتی ہے۔جنان بمعنی دل۔ایک عرب کا کہنا ہے لَا شَاهِدَ علٰی غَائِبٍ أَعْدَلُ مِنْ طَرْفٍ علٰی قَلْبٍ (کوئی گواہ کسی غائب پر اتنا عادل نہیں جتنی نگاہ دل پر ہے)جنانہ کے بجائے ضمیر بھی مروی ہے۔

❁ رُبَّ طَرْفٍ أَفْصَحُ مِنْ لِسانٍ: بہت سی نگاہیں زبان سے زیادہ فصیح ہوتی ہیں۔یہ ایسے ہی ایک قول کی طرح ہے:البُغْضُ تُبْدِیْهِ لكَ العَیْنَانِ (آنکھیں دشمنی تم پر افشا کر دیتی ہیں)

❁ الطَرِیفُ خَفِیْفٌ و التَلِیْدُ بَلِیْدٌ: نئی چیز سبک اور لطیف ہوتی ہے اور پرانی چیز بے کیف (یعنی نئی چیز پرانی چیز کی نسبت زیادہ اچھی لگتی ہے۔اس کے قریب قریب لوگوں کا یہ مقولہ ہے۔لِکُلِّ جَدِیْدٍ لَذَّةٌ (ہر نئی چیز کی اپنی ایک لذت ہے)

❁ أَطْرِقْ کَرَا إِنَّ النَعَامَةَ فِي القُرٰی: کروان اپنی نگاہ نیچی کر لے، دیہات میں شتر مرغ موجود ہے۔اَطْرِقْ:نظر جھکانا کرا کَرَوَان کا مخفف ہے،جس کی جمع کِرْوَان ۔یہ تخفیف اس وقت کی جاتی ہے جب وہ منادی ہو۔کروان ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اس کو حقیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔اور نعام کو بڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔حقیر شخص کے لئے کہا جاتا ہے جب وہ کسی ایسے بڑے موضوع پر گفتگو کر رہا ہو جس پر اس جیسے لوگ گفتگو نہ کرتے ہوں۔معنی ہی کہ اے حقیر شخص خاموش ہو جا تا کہ بڑے لوگ بات کر سکیں)

❁ لاتُطْعِمِ العَبْدَ الکُرَاعَ فیطمعَ بالذراعِ: غلام کو پائے نہ کھلا ورنہ وہ بازو کی طمع کرے گا (کراع جانور کے پاؤں ٹخنے سے نیچے کا حصہ۔اور انسان کا گھٹنے سے نیچے کا حصہ۔ذراع: بازو، بازو کا اگلا حصہ (کہنی سے کلائی تک، اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جسے تھوڑے کی اجازت دی جائے تو وہ زیادہ کا متمنی ہو جائے)

❁ أَطْغٰی مِنَ السَّیْلِ: سیلاب سے زیادہ سرکش۔

❁ وَمَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غیر کَدٍّ
سَیُدْرِکُها اذا شَابَ الغُرابُ

بغیر محنت بلند درجہ طالب کوے کے سفید ہونے سے پہلے اسے نہیں پا سکتا۔

❁ مَنْ طَلَبَ أخًا بلا عَیْب بقي بلاأخٍ: جو بے عیب بھائی چاہے وہ بغیر بھائی کے رہے گا۔

❁ مَنْ طَلَبَ عَظِیمًا خاطَرَ بِعَظِیْمٍ: بڑی چیز کا طلب گار بڑی چیز کو خطرہ میں ڈالے گا۔

❁ مَنْ طَلَبَ شَیْئًا نالَهُ کُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ: جو کوئی چیز طلب کرے گا وہ اس کا پورا یا تھوڑا حصہ حاصل کر لے گا۔

❁ تَطْلُبُ أَثَرًا بَعْدَ عَیْنٍ: تو اصل کے بعد نشان ڈھونڈ رہا ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو چھوڑ کر اس سے لاپرواہی کرے پھر جب وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کے نشان کا پیچھا کرنے لگے اور اسے حاصل کرنے کے اقدامات کرے۔ یہاں عین بمعنی وہی چیز ہے) ہمارے ہاں اسی مفہوم کے لئے یہ محاورہ ہے: سانپ نکل گیا لکیر پیٹا کر)

❁ لا أَطْلُبُ أثرًا بعد عَیْنٍ: میں اصل کے بعد نشان نہیں ڈھونڈتا۔ (یعنی جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اسے نہیں چھوڑتا پھر جب وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کے نشان کا پیچھا نہیں کرتا۔ممکن چیز کی طلب میں غفلت اور اس کے ہاتھ سے نکل جانے پر اس کی تلاش سے رو کنے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

❁ کُلُّهُمْ طَالِبُ صَیْدٍ: وہ سب ہی ایک ہی شکار کے طالب ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ایک انار سو بیمار)

❁ رُبَّ طَلَبٍ جَرَّ إِلٰی حَرَبٍ: بہت سی طلبیں جنگ کا باعث بنتی ہیں۔ (یعنی بعض اوقات انسان ایسی چیز کا طالب ہوتا ہے جس میں اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے)

❁ إذَا طَلَعَ سُهَیْلٌ رُفِعَ کَیْلٌ و وُضِعَ کَیْلٌ: جب سہیل طلوع ہوتا ہے ایک پیمانہ اٹھ جاتا اور دوسرا رکھا جاتا ہے۔(سہیل ایک ستارہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے طلوع ہونے پر پھل پکتے ہیں اور موسم گرما کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔یہ احکام کے بدلنے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

❁ إذَا طَلَعَ القَمَرُ طَابَ السَهَرُ: جب چاند نکلتا ہے بیداری خوشگوار ہو جاتی ہے۔

❁ أَطْمَعُ مِنْ أَشْعَبَ: اشعب سے زیادہ لالچی (اشعب مدینہ کے ایک شخص کا نام ہے جو اپنی طمع کی وجہ سے مشہور تھا۔اس کے لالچ کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ ایک طشتری بنانے والے کے پاس سے گزرا تو کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تو اس میں گھیر کا اضافہ کر دے۔اس نے پوچھا مگر کیوں۔تو اشعب نے جواب دیا: ہوسکتا ہے کہ اس میں رکھ کر کوئی چیز مجھے تحفہ بھیجا جائے۔

❁ أَطْمَعُ مِنْ طُفَیْلٍ: طفیل سے زیادہ لالچی (طفیل کوفہ والوں سے ایک شخص کا نام ہے جو مشہور لالچی تھا۔طفیلیون کا لفظ اسی سے منسوب ہے۔جس کا معنی مفت خورے ہے جو بن بلائے دعوتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔واحد طفیلی)

❁ مَنْ أَطَاعَ هَوَاهُ بَاعَ دِیْنَهُ بِدُنْیَاهُ: جو اپنی خواہش کی اطاعت کرے، اپنے دین کو اپنی دنیا کے بدلہ میں بیچ دیتا ہے۔

❁ مَنْ أَطَاعَ غَضَبَهُ أَضَاعَ أَدَبَهُ: جس نے اپنے غصے کی اطاعت کی اس نے اپنا ادب ضائع کر دیا۔

❁ بَيْنَ الْمُطِيعِ وبين الْمُدْبِرِ العاصي: فرمانبردار اور گناہ گار فرار پسند کے مابین (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اطاعت اور عدم اطاعت کے بین بین ہو اور اس کی اطاعت اور عدم اطاعت میں سے کسی کا اعتبار نہ کیا جائے۔

❁ مَنْ يَطُلْ ذَيْلُهُ يتنطق به: جس کا دامن دراز ہوتا ہے وہ اس کا پٹکا باندھتا ہے۔ (یعنی جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے وہ اسے ایسی چیزوں پر خرچ کر دیتا جن کی اسے مطلق ضرورت نہیں ہوتی۔ اس شخص کی طرح جس کے کپڑے کا دامن لمبا ہو تو وہ فالتو حصہ کو اونچا کر کے باندھتا ہے۔ فضول خرچ دولت مند کے لئے کہا جاتا ہے۔

❁ أَطْوَلُ مِنْ ظِلِّ الرُّمْحِ: نیزہ کے سائے سے زیادہ لمبا۔

❁ أَطْوَلُ صُحْبَةً مِنَ الفَرْقَدَيْنِ: فرقدین سے بھی زیادہ طویل صحبت، فرقدین ہمیشہ ساتھ رہنے والے دو ستارے۔

❁ أَطْوَلُ مِنْ شَهْرِ الصَّوْمِ: ماہ صیام سے زیادہ لمبا۔

❁ ماعنده طَائِلٌ ولا نَائِلٌ: اس کے پاس نہ تو علم و فضل ہے اور نہ ہی عطیہ۔ (طائل طول سے مشتق ہے جس کا معنی فضل ہے اور نائل نوال سے مشتق ہے اور اس کا معنی عطیہ ہے)

❁ طَوَيْتُهُ عَلَى بُلَالَتِهِ او بَلَالِهِ: میں نے اسے اس کی نمی پر لپیٹ دیا۔ (مراد میں نے اس کی ایذا کو برداشت کیا اور اس کی تکلیف کو معاف کر دیا۔ مویشیوں والے دودھ ختم ہونے پر ضرورت کے وقت تک دودھ کی مشکیں گیلی ہی لپیٹ دیتے ہیں۔ ایسے شخص کی اذیت برداشت کرنے جس کے پاس تمہاری بچی کھچی محبت ہو یا اس کے اور تمہارے درمیان اچھے حالات کی بحالی کے انتظار کے لئے کہا جاتا ہے۔

❁ لِكُلِّ طَيٍّ نشرٌ: ہر تہہ کے لئے کھلنا ہے۔

❁ أَطْيَبُ مِنْ نَفَسِ الرَّبِيعِ: موسم بہار کی ہوا سے زیادہ خوشگوار۔

❁ أَطْيَبُ مِنَ الحَيَاةِ: زندگی سے زیادہ خوشگوار۔

❁ طَارَتْ بِهِمِ العَنْقَاءُ: ان کو عنقا اڑا لے گئی (ایسی قوم کے لئے کہا جاتا ہے جو ہلاک ہو گئے اور ان کا کوئی فرد نہیں بچا۔ عنقاء ایک ایسا اسم ہے جس نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ ایک خیالی پرندہ سمجھا جاتا ہے۔

❁ الطيرُ بالطيرِ يُصاد: پرندہ پرندہ کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے۔

❁ إنَّ الطُّيُورَ على أَشْكَالِهَا تقعُ: پرندے اپنے ہم شکلوں پر اترتے ہیں۔

❁ أَطْيَشُ مِنْ فَرَاشَةٍ: پروانہ سے زیادہ طیش میں آنے والا (کیونکہ وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیتا ہے)

❁ يُطَيِّنُ عَيْنَ الشَّمسِ: وہ سورج کی آنکھ پر مٹی کا لیپ کرتا ہے۔

(اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو واضح اور صاف حق کو چھپائے)

ظ

❁ ظِئْرٌ رَؤُومٌ خيرٌ من امٍّ سَؤُومٍ: مہربان دایہ ملول ماں سے بہتر ہے (ظئر: دایہ، رؤوم: مشفق، مہربان، سؤوم: ملول، اکتایا ہوا)

❁ الظَّفَرُ بالضعيفِ هَزِيمَةٌ: کمزور پر فتح شکست ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کے ساتھ مغرورانہ سلوک کیا جائے یا جسے کمزور سمجھا جائے)

❁ ظِلُّ السُّلْطَانِ سَرِيعُ الزوال: بادشاہ کا سایہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔

❁ ظِلَالُ صيفٍ مَالَهَا قِطَارٌ: گرمیوں کے بادلوں کی قطار نہیں ہوتی (بے فیض مالدار کے لئے کہا جاتا ہے۔ ظلال: سایہ دار بادل وغیرہ۔

❁ ظُلْمُ المَرْءِ يصرعُهُ: آدمی کا ظلم ہی اس کو پچھاڑ دیتا ہے۔

❁ الظُّلْمُ مَرْتَعُهُ وَخِيمٌ: ظلم کی چراگاہ مہلک ہے۔ (یعنی ظلم کی عاقبت مذموم ہے۔

❁ أَظْلَمُ مِنْ حَيَّةٍ: سانپ سے زیادہ ظالم۔

❁ أَظْلَمُ من أَفْعَى: سیاہ سانپ سے زیادہ ظالم۔

❁ أَظْلَمُ مِنْ لَيْلٍ: رات سے زیادہ سیاہ۔

❁ أَظْمَأُ مِنْ رَمْلٍ: ریت سے زیادہ پیاسا۔

❁ يُصْبِحُ ظَمْآنَ وفي البَحْرِ فَمُهُ: صبح کو پیاسا اٹھتا ہے حالانکہ منہ سمندر میں ہے۔ (مالدار کنجوس کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ ظَنُّ العَاقِلِ خَيْرٌ مِنْ يَقِينِ الجاهل: عقلمند کا گمان جاہل کے یقین سے بہتر ہے۔

❁ ماظَنُّكَ بجارِكَ؟ قَالَ ظَنِّي بنفسي: اپنے پڑوسی کے متعلق تیرا گمان کیا ہے؟ کہا وہ گمان جو اپنی ذات سے متعلق ہے۔ (آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے)

❁ أَكْثَرُ الظُّنُونِ مُيُونٌ: اکثر گمان جھوٹ ہوتے ہیں۔ (میون مین بمعنی جھوٹ کی جمع)

❁ عَنْ ظَهْرِهَا تَحُلّ وِقْرًا: وہ اپنی ہی کمر کا بوجھ کھول رہی ہے۔ (وقر: بھاری بوجھ، اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لئے قدم اٹھائے)

❁ ظَاهِرُ العِتَابِ خيرٌ مِن بَاطِنِ الحِقْدِ: ظاہری عتاب باطنی کینہ سے بہتر ہے۔ یہ عربوں کے اس قول کے قریب قریب ہے: وَيَبْقَى الوُدُّ مَابَقِيَ العِتَابُ محبت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک عتاب باقی رہے)

ع

❁ عَبْدٌ وَحَلْيٌ في يَدَيْهِ: غلام اور ہاتھ میں زیور (اس مال و دولت کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کا مالک اس کا اہل نہ ہو)

❁ عَبْدٌ وَسُوْمِ: غلام اور بے مہار (سَوَّمَہٗ کا معنی کسی کو آزادی دے کر اس کی مرضی پر چھوڑ دینا۔ یہ مثل کمینہ شخص کے بارے میں کہی جاتی ہے جب اسے کھلی چھٹی حاصل ہو)

❁ عَبْدُ غَیْرِكَ حُرٌّ مِثْلُكَ: غیر کا غلام تمہاری طرح آزاد ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بے ہنر ہوتے ہوئے خود کو دوسروں پر فضیلت دے۔

❁ اَلْعَبْدُ یُقْرَعُ بالعَصا و الحُرُّ تکْفِیهِ الإشارَةُ: غلام کو لاٹھی سے مارا جاتا ہے جبکہ آزاد کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے۔

❁ العَبْدُ مَنْ لا عَبْدَ لَہٗ: غلام وہ بھی ہے جس کا کوئی غلام نہ ہو۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کے پاس اس کا کام کرنے والا نہ ہو تو وہ اپنے کام خود ہی کرتا ہو)

❁ فِي الإعْتِبارِ غِنًى عَنِ الإخْتِبارِ: عبرت حاصل کرنے میں امتحان میں بے نیازی ہے۔ (یعنی جو شخص دیکھ کر عبرت حاصل کرے تو وہ آئندہ اس جیسے کام کا امتحان کرنے سے مستغنی ہو جاتا ہے)

❁ التعْبیر نِصْفُ التِجارَةِ: پرکھنا آدھی تجارت ہے۔

❁ مَنْ عَتَبَ عَلَى الدَهْرِ طَالَتْ مَعْتَبَتُہٗ: جس نے زمانہ پر عتاب کیا، اس کا عتاب طویل ہو گیا (کیونکہ زمانہ تکلیف سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ معتبہ بمعنی عتاب)

❁ العِتابُ خیرٌ مِنْ مَکْتُومِ الحِقْدِ: عتاب چھپے ہوئے کینہ سے بہتر ہے۔

❁ العِتابُ قَبْلَ العِقَابِ: سزا سے پہلے عتاب سے کام لے عتاب اس سے پہلے استعمل مضمر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی بگڑے ہوئے کو جہاں تک ممکن ہو عتاب کے ذریعے ٹھیک کرو اگر یہ مشکل اور ناممکن ہو تو سزا دے)

❁ لا عِتابَ بَعْدَ المَوْتِ: موت کے بعد کوئی عتاب نہیں۔

❁ مُعاتَبَةُ الإخوانِ خیرٌ مِنْ فَقْدِهِمْ: بھائیوں کی ناراضگی ان کے نہ ہونے سے بہتر ہے۔ (یہ عربوں کے اس مقولہ جیسا ہے: وفی العتاب حیاةٌ بَیْنَ اقْوامٍ: (عتاب میں قوموں کے درمیان زندگی ہے)

❁ رُبَّ عِتْقٍ شرٌّ مِنْ رِقٍّ: کبھی کبھی آزادی بھی غلامی سے بدتر ہوتی ہے۔ (عِتق: آزادی رِق: غلامی)

❁ عَثْرَةُ القَدَمِ أَسْلَمُ مِنْ عَثْرَةِ اللسانِ: قدم کی لغزش زبان کی لغزش سے زیادہ محفوظ ہے۔

❁ مَا کُلَّ عَثْرَةٍ تُقالُ ولا کُلُّ فُرْصَةٍ تُنالُ: نہ ہر لغزش معاف کی جاتی ہے اور نہ ہر موقعہ پھر ملتا ہے۔

❁ لا یَعْجَزُ القَومُ إذا تَعاوَنُوا: باہمی تعاون ہو تو قوم عاجز نہیں ہوتی۔ (اس قوم کے لئے کہا جاتا ہے جو باہم تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کر کے کامیاب ہو)

❁ العَجْزُ رِیبَةٌ: عاجزی میں شک ہے۔ (یعنی انسان کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے اس تک راستہ مل جاتا ہے، لیکن اگر عاجزی کا اقرار کر لے تو اس کا کام مشکوک ہو جاتا ہے)

❁ العَجَلَةُ فُرْصَةُ العَجَزَةِ: جلدی عاجزوں کی فرصت ہے۔ (غور و فکر کی تعریف اور جلدی بازی کی مذمت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ یُعَدُّ لِکَلْبِ السُوءِ کَلْبٌ یُعادِلُہٗ: برے کتے کے لئے ویسا ہی کتا تیار کیا جاتا ہے (یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بے وقوف سے ویسے ہی بے وقوف کے شر کو دور کرنے کے لئے مدد لی جائے)

❁ لَیْسَ مِنَ العَدْلِ سُرْعَةُ العَذْلِ: ملامت میں جلدی کرنا انصاف نہیں۔ (عذر جاننے سے پہلے ملامت میں جلدی نہیں کرنی چاہئے)

❁ أَعْدَلُ مِنْ مِیزانٍ: ترازو سے زیادہ منصف۔

❁ لا تَعْدَمُ الحَسْناءُ ذامًّا: کوئی حسینہ عیب کے بغیر نہیں ہوتی۔ (ذام: عیب، مذمت، اس مثل کی اصل یہ ہے کہ ایک غسانی بادشاہ نے ملک بن عمرو عدوانیہ کی لڑکی سے شادی کی جو اپنے زمانہ کی حسین ترین عورت تھی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس دلہن بنا کر بھیجی گئی تو اس نے اس میں ایک عیب محسوس کیا اور اسے وہ عیب پسند نہ آیا۔ اس موقع پر حسینہ نے یہ بات کہی جو اوپر مذکور ہے۔

❁ لا یُعْدَمُ الحُوارُ مِنْ اُمِّہٖ حَنَّةً: اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی شفقت سے محروم نہیں رہتا۔ (حُوار: اونٹنی کا بچہ بوقت پیدائش یا اس وقت تک جب اس کا دودھ چھڑایا جائے۔ حَنّة: مہربانی، شفقت)

❁ العَدِیمُ مَنْ إحْتاجَ إلى لَئِیمٍ: مفلس وہ ہے جو کمینہ کا محتاج ہو۔

❁ مَنْ تَعَدَّى الحَقَّ ضاقَ مَذْهَبُہٗ: حق سے تجاوز کرنے والے کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔

❁ أَعْدَى مِنَ السُلَیْكِ وأَعْدَى مِنَ الشَنْفَرَى: سلیک سے زیادہ تیز دوڑنے والا، شنفری سے زیادہ تیز دوڑنے والا۔ (أعْدَى عَدْوٌ (بمعنی تیز دوڑنے) سے اسم تفضیل ہے۔ سلیک اور شنفری عربوں کے ہاں مشہور تیز دوڑنے والے تھے)

❁ أَعْدَى مِنَ العَقْرَبِ: بچھو سے زیادہ دشمن (عداء اور عداوت سے اسم تفضیل کا صیغہ)

❁ أَعْدَى مِنَ الجَرَبِ: کھجلی سے زیادہ متعدی (یہاں اعدی، عدوی (متعدی مرض) سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے)

❁ إیَّاكَ وَمَا یُعْتَذَرُ مِنْه: اس بات سے بچو جس پر معذرت کی جائے۔ (یعنی ایسا کام نہ کرو جس پر تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے)

❁ والعُذْرُ عِنْدَ کِرامِ الناسِ مَقْبُولٌ: معذرت شریف لوگوں کے ہاں قبول کی جاتی ہے۔

❁ لَعَلَّ لَہٗ عُذْرًا وَأَنْتَ تَلُومُ: ہو سکتا ہے اس کے پاس عذر ہو حالانکہ تو اسے ملامت کر رہا ہے (اس شعر کا مصرع اول یہ ہے: تَأَنَّ ولا تعجل بلومك صاحبا (آہستگی سے کام لے اور اپنے ساتھی کو ملامت کرنے

میں جلدی نہ کر) اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ایسے شخص کو ملامت کرے جس کے پاس عذر ہو اور اسے اس عذر کا پتہ نہ ہو)

❁ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ: جس نے آگاہ کر دیا اس نے عذر پیش کر دیا۔ (یعنی جس نے تجھے پڑنے والی مصیبت سے متنبہ کر دیا وہ تمہارے نزدیک معذور ہو گیا)

❁ المَعَاذِرُ مَكَاذِبُ: عذر جھوٹ بھی ہوتے ہیں۔ (معاذر، معذرت کی جمع، مکاذب کذب کی جمع جیسے محاسن حسن کی جمع ہے۔ یہ عربوں کے اس قول جیسا ہے: المعاذیر قد یشوبها الكذب: معذرتوں میں کبھی جھوٹ ملا ہوتا ہے)

❁ رَجَّالَةٌ تَعْتَقِلُ الرِمَاح: پیدل نیزوں کو گھوڑوں کے پہلو اور رانوں کے درمیان پکڑے ہوئے ہیں۔ (رَجَّالَة: راجل کی جمع ہے، یعنی جنگ میں پیادہ فوج کے سپاہی۔ اعتقال سوار کا گھوڑے کے پہلو اور ران کے درمیان اپنا نیزہ پکڑے رکھنا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو حیثیت سے زیادہ شیخی مارے)

❁ عَرِّضْ لِلْكَرِيم ولا تُباحِت: شریف سے اشارہ کنایہ سے کہو، صاف مت کہو۔ (یعنی شریف سے اپنی ضرورت واضح اور صاف صاف نہ کہو کیونکہ شریف کے لئے اشارہ کنایہ ہی کافی ہوتا ہے)۔

❁ إِنَّ فِي المَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عن الكذب: کنایوں میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے (معاریض معراض کی جمع ہے اور اس کا معنی ظاہری معنی چھوڑ کر دور کے معنی مراد لینا ہے۔ مندوحہ کا معنی گنجائش۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہے)

❁ عَرَفَتِ الخَيْلُ فُرْسَانَها: گھوڑوں نے اپنے سواروں کو پہچان لیا ہے۔ (حریف کی طاقت کا اندازہ لگا کے اس کے راستے سے ہٹ گیا)

❁ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ: جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔

❁ مَنْ عُرِفَ بِشَيْءٍ نُسِبَ اليه: جو کسی چیز کے ذریعے پہچانا گیا اس کی طرف منسوب کیا گیا۔

❁ لايَعْرِفُ الحَيَّ مِنَ اللَّيِّ: وہ حق کو باطل سے ممتاز نہیں کرسکتا۔ (کہا گیا کہ حی حق اور لی باطل کے معنی میں ہے۔ بعض کے نزدیک حی ظاہر کلام اور لی پوشیدہ کلام کو کہا جاتا ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو معاملہ کی حقیقتوں سے آگاہ نہ ہو)

❁ لايَعْرِفُ العودَ كَالعَاجِم: لکڑی کو دانت سے کاٹنے والے کی طرح کوئی دوسرا اسے نہیں جان سکتا (عجم العود کا معنی لکڑی کی سختی نرمی جانچنے کے لئے اسے دانتوں سے کاٹنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو صرف وہی جان سکتا ہے جو اس کی جانچ پڑتال کرلے۔

❁ مَايَعْرِفُ قبيلاً مِنْ دَبِيْرٍ: وہ آنے والے کو جانے والے سے ممتاز نہیں کرسکتا۔

❁ لا يعرف الكوعَ من البوع: وہ ہاتھ کی ہڈی کو پاؤں کی ہڈی سے ممتاز نہیں کرسکتا۔

❁ لايَعْرِفُ الهِرَّ من البِرِّ: وہ بلی اور چوہے میں فرق نہیں کرتا۔ (هر: بلی، بر: چوہا وغیرہ وغیرہ)

❁ الإعْتِرَافُ يَهْدِمُ الإقْتِرَاف: جرم کا اعتراف جرم کے ارتکاب کو ختم کر دیتا ہے۔

❁ مَنْ عَزَّ بَزَّ: غالب آنے والا فتح یاب ہوتا ہے۔

❁ إذَا عَزَّ أخُوكَ فَهُنْ: جب تیرا بھائی عزت پائے تو تو نرم ہوجا (یعنی تیرے اپنے دوست کے ساتھ نرمی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ تو طیش کھائے بلکہ یہ تیری طرف سے حسن خلق اور مروت ہے۔ نیز یہ معنی ہے کہ اگر تیرا بھائی سختی کرے تو اس سے نرمی اختیار کر کیونکہ اگر تو بھی سختی کرے گا تو تعلق ختم ہوجائے گا)

❁ عِزُّ الرَجُلِ استغناؤه عن الناس: آدمی کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔

❁ أعَزُّ مِنْ كُلَيْبِ وَائِل: وائل کے کتے سے زیادہ معزز (قبیلہ ربیعہ کے سردار کلیب بن ربیعہ بن حرث کی اتنی دھاک تھی کہ اس کی چراگاہ کے کوئی قریب نہ پھٹکتا تھا۔ کسی شکار کو پناہ دیتا تو کسی کو جوش نہ آتا۔ جب کسی پسندیدہ باغ یا چشمہ سے گزرتا تو وہ اپنے ایک چھوٹے سے کتے کو وہاں چھوڑ دیتا، جہاں تک اس کے بھونکنے کی آواز جاتی وہ اس کا مخصوص قطعہ ہو جاتا۔ کلیب بن ربیعہ کا نام وائل تھا۔ اس چھوڑے ہوئے کتے کی چراگاہ کی حفاظت پر کہا جانے لگا: اعز من كليب وائل پھر یہ نام ہی بالا دست ہوگیا اور وائل کا نام سمجھا جانے لگا)

❁ أعَزُّ مِن الزَبَّاء: زبا سے زیادہ معزز (زبا عمالقہ کی ایک عورت اور حیرہ کی ملکہ تھی لشکر لے کر خود حملہ آور ہوا کرتی تھی۔ اس نے سموأل کے دو انتہائی مضبوط قلعوں (مارد اور ابلق نامی) پر حملہ کیا تھا اور وہ بلند ہمت، ناقابل تسخیر قوت اور عزم مصمم میں مشہور تھی)

❁ أعَزُّ مِنْ أنفِ الأسد: شیر کی ناک سے زیادہ عزت والا۔

❁ أعَزُّ من جبهة الأسد: شیر کی پیشانی سے زیادہ عزت والا۔

❁ أعَزُّ مِن عُقَاب الجو: فضا کے عقاب سے زیادہ عزت والا۔ (ان تین مقولوں میں مراد ناقابل تسخیر قوت مراد ہے)

❁ أعَزُّ مِنَ الأبْلَقِ العَقُوق: ابلق حاملہ گھوڑے سے زیادہ نادر (اس چیز کے لئے کہا جاتا ہے جو نادر الوجود ہو یا نہ ہوسکتی ہو۔ کیونکہ ابلق نر کو کہتے اور عقوق حاملہ گھوڑی کو اور نر حاملہ نہیں ہوتا۔ انسان استحقاق سے زیادہ چیز طلب کرے یا اسے حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ يطلب الابلق العقوق گویا وہ ایسی چیز طلب کرتا ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتی)

❁ أعَزُّ من بَيْضِ الأنُوق: کرگس (گدھ) کے انڈوں سے زیادہ نایاب (انوق: گدھ (کرگس) کو کہا جاتا ہے کہ اس کے انڈے نایاب ہوتے ہیں کیونکہ انہیں حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھ

کے انڈے پہاڑوں کی چوٹیوں اور دور دراز اور دشوار گزار جگہوں پر ہوتے ہیں)

❁ أَعَزُّ مِنَ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ: سفید ٹانگ والے کوے سے زیادہ نایاب۔ اعصم جس کی ایک ٹانگ سفید رنگ کی ہو اور کوا ایسا نہیں ہوتا۔ اس چیز کے لئے کہا جاتا ہے جو نادرالوجود ہو یا بالکل ہی نہ ہو)

❁ اعَزُّ مِنَ الْكِبْرِيْتِ الْأَحْمَرِ: سرخ گندھک سے زیادہ نایاب۔

❁ اعَزُّ مِنْ عَنْقَاء مُغْرِبٍ: سفید عنقاء سے زیادہ نایاب۔

❁ أَعَزُّ مِنْ مُخِّ البعوض: مچھر کے مغز سے زیادہ نایاب (ان تینوں مقولوں میں نادرالوجود یا عدیم الوجود چیز کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ أَنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا: فراخی تو تنگی کے بعد ہوتی ہے۔

❁ لَيْسَ هٰذَا بِعُشِّكَ فَادْرُجِي: یہ تیرا گھونسلا نہیں ہے لہٰذا چلی جا۔ (یعنی اس معاملہ میں تیرا کوئی حق نہیں۔ اس لئے اس کو چھوڑ دے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو خود کو اپنے درجہ سے بلند کرے یا ایسا کام کرے جو اسے کرنا نہیں چاہئے)

❁ أَعْشَبْتَ فَانْزِلْ: تو نے گھاس پالیا لہٰذا اتر جا۔ (أَعْشَبَ الرجلُ: تر گھاس پالینا۔ یعنی تو نے اپنی ضرورت حاصل کر لی بس قناعت کر)

❁ بِكُلِّ عُشْبٍ آثَارُ رَعْيٍ: ہر گھاس میں چرنے کے نشان ہوتے ہیں۔ (یعنی جہاں دولت ہو وہاں مانگنے والے جمع ہو جاتے ہیں)

❁ تَعَاشَرُوا كَالْإِخْوَانِ وَتَعَامَلُوا كَالْأَجَانِبِ: بھائیوں کی طرح رہو اور جنسوں کی طرح معاملہ کرو (یعنی تجارت میں کسی پر احسان نہیں کیا جاتا)

❁ إِنَّ العصا مِنَ الْعُصَيَّةِ: لٹھ لاٹھی سے ہوتا ہے۔ (کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ بڑی چیز شروع میں چھوٹی ہوتی ہے۔ عُصَيَّة: عصا کی تصغیر ہے یعنی لٹھ سے لاٹھی ہے۔ ایک معاملہ سے دوسرے کے آنے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے عصا ایک گھوڑے کا نام ہے اور عصیہ اس کی ماں کا نام ہے۔ مراد یہ کہ گھوڑا اپنی ماں سے اصل اور نسلی شرافت میں مشابہ ہوتا ہے۔ آدمی کی اپنے باپ سے مشابہت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ بين الْعَصَا ولِحَائِهَا: لاٹھی اور اس کی چھال کے درمیان۔ (لحاء: لکڑی کی چھال۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو دو محبت کرنے والوں یا سگے بھائیوں کے درمیان آجائے)

❁ رُبَّ عَطَبٍ تَحْتَ طَلَبٍ: طلب کے نیچے بہت سی تباہیاں ہیں)

❁ لاعِطْرَ بَعْدَ عَرُوسٍ: عروس کے بعد کوئی عطر نہیں۔ (یہ اسماء بنت عبداللہ عذریہ کا قول ہے۔ اس کی قوم سے اس کا شوہر عروس نامی تھا۔ عروس کے مرنے پر نوفل نامی نے اس سے شادی کر لی جو پہلے شوہر کی نسبت کنجوس، بدصورت اور گندہ دہن تھا۔ اس کے ساتھ جاتے ہوئے ایک بار اس کا گزر عروس کی قبر پر ہوا۔ تو وہ بیٹھ کر رونے، مرثیہ کہنے اور اپنے نئے شوہر پہ ڈھال کر بات کرنے لگی۔ اس پر اس شوہر نے اسے اٹھنے کا حکم دیا۔ جب وہ اٹھی تو اس سے عطر کی شیشی نیچے گر گئی۔ نوفل نے اس سے کہا اپنی شیشی اٹھا لے۔ اس پر اس نے کہا تھا: لاعِطْرَ بَعْدَ عروس)

❁ بَيْنَهُمْ عِطْرُ مَنْشِمٍ: ان کے درمیان منشم کا عطر ہے۔ (منشم مکہ کی ایک عطر فروش عورت کا نام تھا۔ بنی خزاعہ اور بنی جرھم جنگ پر جاتے ہوئے اس کا عطر لگاتے۔ ان کے درمیان دونوں قبیلوں کے بہت سے لوگ مارے جاتے۔ چنانچہ کہا جاتا أشأم من عطر منشم (منشم کے عطر سے زیادہ منحوس۔ بڑے شر کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ أَعْطَشُ مِنْ ثُعَالَةَ: لومڑی سے زیادہ پیاسا (ثعالہ: لومڑی۔ بعض کا کہنا ہے کہ ثعالہ ایک شخص کا نام تھا، جو پیاسا مر گیا)

❁ أَعْطَشُ مِن رَمْلٍ: ریت سے زیادہ پیاسا۔

❁ أَعْطَشُ مِن قِمَعٍ: قیف سے زیادہ پیاسا۔

❁ أَعْطَاهُ غَيْضًا مِنْ فَيْضٍ: اس نے اسے بہت میں سے تھوڑا دیا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بہت میں سے تھوڑی چیز کی سخاوت کرے)۔

❁ أُعْطِيَ مَقُولاً وعُدِمَ مَعْقُولاً: اسے قوت اظہار تو دی گئی مگر معقولیت سے محروم رکھا گیا۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کی گفتگو عقل کی تائید سے خالی ہو)۔

❁ وَإِنَّمَا نُعْطِي الذى أُعْطِينَا: ہم تو وہی دے سکتے ہیں جو ہمیں دیا گیا۔ (اس کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص کے ہاں مسلسل تین لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب اس کی بیوی نے تیسری بیٹی کو جنا، تو وہ دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا:

مالأبی الذلفاء لا یأتینا

وهو فی البیت الذی یلینا

یغضب ان لم نلد البنینا

وانما نُعطی الذی اُعطینا

(ابوذلفاء کو کیا ہو گیا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتا۔ حالانکہ وہ ہمارے قریبی گھر میں ہے۔ ہم لڑکے پیدا نہ کریں تو وہ غصہ ہوتا ہے، جبکہ ہم تو وہی دے سکتے ہیں جو ہمیں دیا گیا۔ اس شخص نے یہ شعر سنے تو خوش ہو کر اپنی بیوی کے پاس آ گیا۔

کسی چیز کے مالک نہ ہونے پر معذرت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ أَعْطِ اخاك تَمْرَةً فَإِنْ أَبَى فَجَمْرَةً: اپنے بھائی کو کھجور دے، انکار کرے تو انگارہ دے (مراد یہ ہے کہ ساتھی سے بھلائی کرنی چاہئے لیکن وہ اس پر ناخوش ہو تو سختی سے کام لیا جائے)

❁ أَعْطِ الْقَوْسَ بَارِيهَا: کمان اس کے بنانے والے کو دو (یعنی اپنے کام میں اس کے جاننے والے اور ماہر سے مدد لینی چاہئے)

❁ مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ إِبْتَلاهُ اللّٰهُ بِكِبَارِهَا: جو چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے)

❁ العُقوق ثکل من لم یثکل: اولاد کی سرکشی ان لوگوں کا اولاد کھو دینا ہے جنہوں نے اولاد نہ کھوئی ہو۔ (کیونکہ والد کو جب اپنے بیٹے کی طرف سے اطاعت نہ ملے تو یہ بیٹے کو کھودینے کے برابر ہے)

❁ العُقوبَة ألأم حالاتِ القُدرة: سزا قدرت کی حالتوں میں سب سے گھٹیا درجہ ہے (یعنی معاف کرنا ہی شریف النفسی ہے)

❁ یاعاقِدُ اذکُر حَلاً: اے گرہ لگانے والے اسے کھولنے کے بارے میں بھی سوچ (عواقب پر غور خوض کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ لِکُلِّ عَقدٍ حَلٌّ: ہر گرہ کھل کر رہتی ہے۔

❁ أعقَدُ مِن ذَنَبِ الضَّبِّ: گوہ کی دم سے زیادہ گرہ دار چھپکلی کی طرح گوہ کی دم بھی کئی گرہوں والی ہوتی ہے)

❁ أعقِل لِسانَکَ إلا فِي أربَعَة: حَقٍّ تُوضِحُهُ وباطِلٍ تدحضه ونعمةٍ تشکرها و حِکمةٍ تُظهِرُها: اپنی زبان روک سوائے ان چار موقعوں کے (۱) جب حق کی وضاحت مطلوب ہو (۲) باطل کو غلط ثابت کرنے کے لئے (۳) نعمت پر شکریہ کے لئے (۴) حکمت کے اظہار کے لئے)

❁ العَقلُ وَزِیرٌ ناصِحٌ: عقل خیر خواہ وزیر ہے۔

❁ عَقلُ المرأةِ فی جَمالِها وجَمالُ الرَّجُلِ فِي عَقلِهِ: عورت کی عقل اس کی خوبصورت میں ہے اور مرد کی خوبصورتی اس کی عقل میں۔

❁ أعقَلُ الناسِ أعذَرُهُم لِلنَّاسِ: سب لوگوں سے زیادہ عقلمند وہ ہے جو لوگوں کا عذر سب سے زیادہ قبول کرے۔

❁ بِعِلَّةِ الزَّرعِ یُسقَی القَرعُ: کھیتی کے بہانے کدو کو بھی پانی مل جاتا ہے۔

❁ بعِلَّةِ الوَرَشانِ یَأکُلُ رُطَبَ المُشانِ: وہ ورشان کے بجائے پکی کھجوریں کھاتا ہے (ورشان: کبوتر کی قسم کا ایک پرندہ۔ مُشان کھجور کی ایک قسم یا بہترین قسم (مراد یہ ہے کہ شکاری شکار کا پیچھا کرنے کے بہانے نخلستان میں گھس کر کھجوریں کھالیتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ظاہر کچھ کرتا ہے مگر مراد کوئی دوسری چیز ہوتی ہے)

❁ أعلَقُ مِن قُرادٍ: چیچڑی سے زیادہ چمٹنے والا۔

❁ لَیسَ المُتَعَلِّقُ کالمُتأنِّقِ: تھوڑی چیز پر اکتفا کرنے والا اپنی پسند کی چیز منتخب کرنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ (متعلق: تھوڑی چیز پر اکتفا کرنے والا۔ متانق: اپنی پسند کی چیز منتخب کرنے والا)

❁ یَعلَمُ مِن أینَ (اومِن حَیثُ) تؤکَلُ الکَتِفُ: وہ جانتا ہے کہ شانہ کو کہاں سے یا کس جگہ کھایا جاتا ہے (ہوشیار آدمی کے لئے کہا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ شانہ نیچے کی طرف سے کھایا جائے اوپر سے کھانا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پتلا شوربہ شانہ کے گوشت اور ہڈی میں رواں ہوتا ہے۔ اوپر سے پکڑنے پر شوربا تم پر گرے گا۔ نیچے سے پکڑنے پر ہڈی سے اتر جائے گا)

❁ مَا کُلُّ مَا یُعلَمُ یُقالُ: ہر چیز جو علم میں آئے کہی نہیں جاتی۔

❁ لاتعلِّم الیتیمَ البُکاءَ: یتیم کو رونا نہ سکھا۔

❁ عِلمُ الشيءِ ولا جَهلُهُ: کسی چیز کا علم اور عدم علم (برابر نہیں)

❁ العِلمُ فِي الصُّدورِ لافي السُّطورِ: علم سینوں میں ہے سطروں میں نہیں۔

❁ إنَّهُ لَعالِمٌ بِمَنابِتِ القَصِیصِ: اسے قصیص کے اگنے کی جگہوں کا پورا پورا علم ہے۔ کہتے ہیں قصیص قصیصہ کی جمع ہے جو چھوٹی جھاڑی کو کہا جاتا ہے اور کھمبی کے نزدیک اگتی ہے ان جھاڑیوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کھمبی قریب ہوگی۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے اپنی ضرورتوں کا پتہ ہو)

❁ لِکُلِّ عالِمٍ هَفوَةٌ: ہر عالم سے کوئی نہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے۔ هفوه بمعنی لغزش اس مفہوم کا حامل یہ قول ہے لِکُلِّ جَوادٍ کَبوَة (ہر گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، لِکُلِّ صارِمٍ نَبوَة (ہر تلوار کبھی نہ کبھی اچٹ جاتی ہے)

❁ العُلَماءُ اُمَناءُ اللّٰهِ عَلَی خَلقِهِ: علماء مخلوق خدا میں خدا کے امین ہیں۔

❁ أعلَمُ بِها مَن غَصَّ بِها: لقمہ سے بہتر واقف وہی ہوتا ہے، جو کھاتے ہوئے اس کے گلے میں اڑ جائے (یعنی جس کی وجہ سے اسے اچھولگ جائے۔ ھاء کی ضمیر کا دونوں جگہ پر مرجع لقمہ ہے اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس نے معاملات کا تجربہ کیا ہو، ان میں عملی طور پر حصہ لیا ہو، ان سے واقف ہوا اور یوں ان کا زیادہ جاننے والا ہو گیا ہو۔)

❁ أعلامُ أرضٍ جُعِلَت بَطائحا: زمین کے پہاڑ نشیبی علاقے بنادیئے گئے (اعلام: پہاڑ (جمع) بطائح بطیحة کی جمع نشیبی زمین۔ معزز لوگوں کے لئے کہا جاتا ہے جو ذلیل ہو گئے ہوں)

❁ مَن عَلَت هِمَّتُهُ طَالَ هَمُّهُ: جس کی ہمت بلند ہو اس کا فکر طویل ہوگا۔

❁ أعمَرُ مِن حَیَّةٍ: سانپ سے زیادہ لمبی عمر والا (عربوں کا خیال تھا کہ سانپ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اسے قتل نہ کر دیا جائے۔ سانپ بڑا ہو کر چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس طرح ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قتل ہو جائے)

❁ أعمَرُ مِن نَسرٍ: گدھ سے زیادہ عمر والا (عربوں کے خیال میں گدھ کی عمر پانچ سو سال ہوتی ہے)

❁ لِکُلِّ عَمَلٍ ثَوابٌ ولِکُلِّ کلامٍ جَوابٌ: ہر عمل کے لئے جزا ہے اور ہر کلام کا جواب۔

❁ الأعمالُ بِخَواتِمِها: عملوں کا اعتبار ان کے انجام پر ہے۔ (یہ عربوں کے اس مقولہ کی مانند ہے: خیر الامور احمدها مغبةً بہترین کام وہ ہے جو قابل تعریف انجام کا حامل ہو)

❁ إیَّاکِ أعنِي واسمَعِي یا جارَةُ: پڑوسن! میں تجھ سے ہی کہتا ہوں، میری بات سن لے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کہے کچھ اور مراد

کچھ اور ہو)

❁ وَمِنَ الْعَنَاءِ رِيَاضَةُ الْهَرِمِ: عمر رسیدہ شخص کی ریاضت ایک زحمت ہے (یعنی عمر رسیدہ کی جسمانی حالت کے خلاف علاج ایک سخت اور کمزور عمل ہے)

❁ عَادَ الْأَمْرُ إِلَى نِصَابِهِ: معاملہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا (ایسے معاملہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ان لوگوں کے سپرد کیا جائے جو اس کی قدرتی ودیعت کے حامل ہوں)

❁ عَادَتْ لِعِتْرِهَا لَمِيسٌ: لمیس اپنی اصل کی طرف لوٹ گئی (عتر: اصل۔لمیس: ایک عورت کا نام۔اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنی بری عادت کی طرف لوٹ جائے جو وہ چھوڑ چکا ہو۔"ل" یہاں الی کے معنی میں ہے)

❁ عَوَّدْتُ كُنْدَةَ عَادَةً فَاصْبِرْ لَهَا: تو نے کندہ کو ایک عادت ڈال دی ہے لہٰذا صبر کر (کندہ ایک عورت کا نام)

❁ عُودِي إِلَى مَبَارِكِكِ: اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جا (مَبْرَك اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ جمع مبارک مثل کی اصل بھاگنے والے اونٹوں کے بارے میں ہے۔مراد اپنے پہلے کاروبار کی طرف لوٹ جا)

❁ الْعَوْدُ أَحْمَدُ: لوٹنا زیادہ قابل تعریف ہے (ہوسکتا ہے کہ احمد حامد سے افعل التفضیل کا صیغہ ہو اس صورت میں معنی ہوتا ہے جب انسان اچھا کام شروع کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لئے تعریف کماتا ہے، دوبارہ کرے تو وہ اپنے لئے زیادہ تعریف کمانے والا ہوجاتا ہے۔یہ بھی ممکن ہے کہ افعل مفعول کے معنی میں ہو، اس صورت میں مراد ہوگی اچھے کام کی ابتداء قابل تعریف ہوتی ہے اس کام کو دوبارہ کرنا تعریف کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔اسی موضوع پر شاعر کا قول ہے:

وَأَحْسَنَ عَمْرٌو في الذي كان بيننا

وإِنْ عَادَ بالاحسان فالعود احمد

(عمرو نے ہمارے باہمی معاملہ میں اچھا کام کیا، اگر وہ یہ اچھائی دوبارہ کرے گا تو یہ مزید قابل تعریف ہوگا)

❁ لِكُلِّ عُودٍ عُصَارَةٌ: ہر لکڑی کا ایک نچوڑ ہے۔(عصارة: نچوڑ۔رس۔لکڑی میٹھی ہوگی تو اس کا رس میٹھا ہوگا اگر کڑوی تو رس بھی کڑوا ہوگا۔یعنی ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے)

❁ مَا كُلُّ عَوْرَةٍ تُصَابُ: (عورة طالب کے لئے مطلوب سے ظاہر ہونے والے کمزوری یعنی) دشمن سے ظاہر ہونے والی ہر کمزوری سے تم اپنی مراد حاصل نہیں کرسکتے۔

❁ بِئْسَ الْعِوَضُ مِنْ جَمَلٍ قَيْدُهُ: اونٹ کی جگہ اس کی رسی برا بدلہ ہے (اس کی اصل یہ ہے کہ ایک چرواہا اپنے مالک کا اونٹ بیچ کر اس کے پاس اونٹ کی رسی لایا تو اس نے یہ بات کہی)

❁ مَنْ أَعَانَكَ عَلَى الشَّرِّ ظَلَمَكَ: جس نے برے کام میں تیری مدد کی اس نے تجھ پر ظلم کیا۔

❁ أَعِنْ أَخَاكَ وَلَوْ بِالصَّوْتِ: اپنے بھائی کی مدد کر چاہے آواز سے ہی ہو (مدد کرنے پر اکسانے پر کہا جاتا ہے)

❁ أَعِنِّي وَ خَلَاكَ ذَمٌّ: میری مدد کر، اور مذمت تجھ سے دور ہوجائے گی۔طلب مداد کے باوجود مدد نہ کرنے کا عیب دور ہوجائے گا۔

❁ مَا يُعْوِي وَلَا يُنْبِحُ: نہ غرانے کا نہ بھونکنے کا (بیکار، نکما) کہا جاتا ہے نبح الكلبُ فلاناً و نَبَحَ عليه: کا معنی کتے کا کسی پر بھونکنا ہے۔ نباح متعدی ہو تو عوا کے معنی دیتا ہے۔چنانچہ کہا جاتا ہے مَا يُعْوِي ولا يُنْبِحُ یعنی حقارت کی وجہ سے اس سے حساب نہیں چکایا جاتا اور نہ ہی اس سے اچھی یا بری بات کہی جاتی ہے۔ما يَعْوِي ولا يَنْبَحُ بھی اس معنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نہ خوشخبری دیتا ہے نہ ڈراتا ہے۔کیونکہ کتے کا بھونکنا مہمان۔کے آنے کی خوشخبری دیتا ہے اور بھیڑیے کا غرانا بکریوں پر حملہ کی خبر دیتا ہے۔یعنی خبر کے حصول اور شر دور کرنے میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

❁ لَا فِي الْعِيرِ ولا فِي النَّفِيرِ: نہ قافلہ میں نہ اس سے کم کے ٹولہ میں (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی اہم کام کے لئے موزوں نہ ہو اور بے سودگی کی وجہ سے بنظر حقارت دیکھا جائے۔عیر: گدھوں یا اونٹوں کا قافلہ یا مطلق قافلہ۔النفیر: دس سے کم لوگوں کا ٹولہ (اس کی اصل قریش کا قافلہ ہے جو شام سے ابوسفیان کے ساتھ آیا تھا۔نفیر اس قافلہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لئے عتبہ بن ربیعہ کے لئے نکلا تھا۔جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوا۔قافلہ اور ٹولہ میں شرکت نہ کرنے والوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی)

❁ مَهْمَا تَعِشْ تَرَهْ: جتنا عرصہ بھی تو زندہ رہے دیکھ لے گا (ترہ سکتہ کے لے ہے تری کا مفعول محذوف ہے۔اصل یوں ہے مَادُمْتَ تَعِيشُ ترى اشياءً عجيبة: جب تک تو زندہ رہے گا عجیب وغریب واقعات دیکھے گا)

❁ عِشْ تَرَ مَالَمْ تَرَ: زندہ رہ وہ دیکھ جو تو نے نہیں دیکھا (یعنی جو لمبی عمر پائے گا وہ ایسے حوادث دیکھے گا جن میں نصیحت ہوگی)

❁ عِشْ رَجَبًا تَرَ عَجَبًا: رجب کے مہینے تک زندہ رہ حیرت ناک واقعات دیکھے گا (حرث بن عباد ثعلبی نے اپنی زبان دراز بیوی کو طلاق دے دی تھی۔جس نے ایک شخص کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کیا۔یہ شخص ایک دن حرث سے ملا۔حرث نے اسے اپنی مطلقہ کے نزدیک اپنی حیثیت سے آگاہ کیا اور کہا عش رجبا تر عجبا مطلقہ کی عدت کو رجب کے مہینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔جس میں کوئی جنگ نہیں ہوتی جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے دہشتناک واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔حارث کی مراد یہ تھی کہ جب وہ اس عورت کے ساتھ رہے گا تو اس کی معاشرت بد کے حیران کن واقعات دیکھے گا)

❁ عِشْ قَنِعًا تكن مَلِكًا: قانع ہو کر زندگی گزار بادشاہ ہوجائے گا۔

❁ الْعَيْشُ نُجْعَةٌ وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ: زندگی تو روزی کی تلاش کا نام

ہے اور جنگ دھوکے کا۔

❁ انتَ مَرَّةً عَيْشٌ ومَرَّةً جَيْشٌ: تو کبھی زندگی ہے کبھی لشکر (یعنی کبھی نفع حاصل کرتا کبھی نقصان اٹھاتا ہے یا کبھی میرے ساتھ ہوتا ہے کبھی میرے خلاف۔ یہ معنی بھی ہیں۔ کبھی خوشحالی میں کبھی تنگ حالی میں ہوتا ہے۔ جیسے الیوم خمرٌ وغدًا امرٌ)

❁ عَيْنٌ عَرَفَتْ فَذَرَفَتْ: آنکھ نے پہچان لیا اور بھر آئی۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی معاملہ کو دیکھ کر اس کی حقیقت جان لے)

❁ عَيْنُ الهَوَى لاتصدُق: خواہشات کی آنکھ سچی نہیں ہوتی۔

❁ عَيْنُهُ فِرارُهُ: اس کی آنکھ ہی دانت دیکھ لینا ہے۔ (فَرَّ الدَّابَّةَ فِرارًا جانور کے دانت دیکھنا تاکہ اس کی عمر معلوم ہو۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کا ظاہر اس کے باطن کو ظاہر کرتا ہو اور یوں اس کو آزمانے کی ضرورت نہ رہے)

❁ عَيْنُكَ عَبْرَى والفُؤادُ فِي دَدٍ: تیری آنکھ رونے والی ہے اور دل لہو ولعب میں ہے۔ (عينٌ عَبْرَى: رونے والی آنکھ۔ دد: لہو ولعب۔ دد کا لام کلمہ (دد کا لام لمہ و محذف ہے) واو محذوف ہے جیسے غد کا لام کلمہ محذوف ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو تیرے غم پر غم کا اظہار کرے اور اس کے دل میں خوشی پھوٹ رہی ہو۔ ہمارے ہاں مگرمچھ کے آنسو اس مفہوم کو ادا کرتا ہے۔

❁ رُبَّ عَيْنٍ أَنَمُّ مِن لِسَانٍ: بہت سی آنکھیں زبان سے زیادہ چغل خور ہوتی ہیں۔ (اس معنی میں یہ قول ہے۔ لسان الحال ابين من لسان المقال (لسان حال لسان قول سے زیادہ واضح ہوتی ہے)

❁ بِعَيْنٍ تَرانِي يَاجَمِيلُ أَراكَ: جمیل! جس آنکھ سے تو مجھے دیکھتا ہے میں بھی تجھے اسی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔

❁ لَيْسَ لِعَيْنٍ مَارَأَتْ: کسی آنکھ کے لئے وہ چیز نہیں ہوتی جسے وہ دیکھے۔

❁ العِيَانُ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى البيان: اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو بیان کی ضرورت نہیں۔ (عیاں راچہ بیاں)

❁ عَيٌّ صَامِتٌ خَيْرٌ مِنْ عَيٍّ نَاطِقٍ: خاموش عاجز بولنے والے عاجز سے بہتر ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اچھی طرح بات نہ کر سکے اور خاموشی کے فائدے اٹھائے)

❁ اَوَّلُ العِيِّ الاحتلاط: پہلی عاجزی غضب میں آنا ہے۔ (احتلاط: غضب۔ معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے حریف کو ناقابل تردید دلیل سے پیچھے ہٹانے سے قاصر رہے تو غصہ ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے حریف سے جان چھڑا سکے۔

❁ أَعْيَا مِن بَاقِلٍ: باقل سے زیادہ عاجز۔ باقل قبیلہ ربیعہ کے ایک شخص کا نام تھا۔ اس کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ اس نے ایک ہرن گیارہ درہموں میں خریدا جب وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو انہوں نے پوچھا ہرن کتنے میں خریدا ہے۔ باقل نے اپنے ہاتھ پھیلائے زبان نکال کے گیارہ کہے۔ ہرن جو اس کی بغل کے نیچے تھا بھاگ گیا)

غ

❁ غَثُّكَ خَيْرٌ مِنْ سَمِينِ غَيْرِكَ: تمہارا لاغر غیر کے فربہ سے بہتر ہے۔ (یعنی اپنے لاغر پر قناعت کرو لوگوں کے پاس کسی چیز کی طمع نہ کرو خواہ فربہ ہو)

❁ غَدَرَكَ مَنْ دَلَّكَ عَلَى الإِسَاءَةِ: جس نے برائی کی طرف تمہاری رہنمائی کی اس نے تمہیں دھوکا دیا۔

❁ أَغْدَرُ مِنْ غَدِيرٍ: تالاب سے زیادہ دھوکے باز (کیونکہ تالاب کچھ عرصہ بعد خشک ہو جاتا ہے اور زمین پانی جذب کر لیتی ہے)

❁ إِنَّ غَدًا لِنَاظِرِهِ قَرِيبٌ: آنے والی کل اس کا انتظار کرنے والے کے لئے قریب ہے۔ (سب سے پہلے یہ بات قراد بن اجدع نے نعمان بن منذر سے کہی تھی۔ یہ پورا شعر یوں ہے:

فَإِنْ يَكُ صدرُ هَذَا اليوم وَلَّى
فَإِنَّ غَدًا لِنَاظِرِهِ قريبُ

(اگر آج کے دن کے آغاز نے منہ پھیر لیا ہے، تو کوئی بات نہیں کل کے منتظر کے لئے آنے والا کل قریب ہے)

❁ عَسَى غَدٌ لِغَيْرِكَ: ممکن ہے آنے والا کل تیرے غیر کے لئے ہو (یعنی کسی دوسرے شخص کے لئے ہو لہٰذا آج کا کام کل تک ملتوی نہ کر، شاید وہ تجھے کل کو نہ مل سکے)

❁ لِكُلِّ غَدٍ طَعَام: ہر آئندہ کل کے لئے کھانا ہے۔ (اللہ کے فضل پر توکل کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ أَغَرُّ مِنْ سَرَابٍ: سراب سے زیادہ دغا دینے والا (کیونکہ پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے)

❁ أَغَرُّ مِنَ الأَمَانِي: آرزوؤں سے زیادہ فریب دہ۔

❁ أَغَرُّ مِنْ ظَبْيٍ مُقْمِرٍ: چاندنی میں پھرنے والے ہرن سے زیادہ فریب خوردہ۔ (کیونکہ چاندنی رات میں ہرن چندھیا جاتا ہے اور جلد شکار ہو جاتا ہے)

❁ وَكُلُّ غَرِيبٍ لِلْغَرِيبِ نسيب: مسافر مسافر کا قریبی ہوتا ہے۔

❁ مَنْ غَرْبَلَ النَّاسَ نَخَلُوهُ: جو لوگوں کو چھانے گا لوگ اس کو چھان کر بھوسی نکال دیں گے (یعنی جو لوگوں کو گالیاں دے گا لوگ اس کو اس سے بھی زیادہ گندی گالیاں دیں گے)

❁ غَرْثَانُ فَارْبُكُوا لَهُ: بھوکا ہے اس کے لئے کھانا تیار کرو۔ (غرثان: بھوکا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس سے آپ بات کریں مگر وہ ایسی حالت میں ہو جو تمہاری طرف سے توجہ ہٹا دے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص سفر سے آیا تو بھوکا تھا۔ اسے اس کے گھر لڑکا پیدا ہونے کی مبارکباد دی گئی۔ اس پر اس نے کہا: اس کا کیا کروں، اسے کھاؤں یا پیوؤں؟ یہ سن کر اس کی بیوی بولی: بھوکا ہے اس کے لئے کھانا تیار کرو۔ رَبْكٌ: مرکب کرنا، گوندھنا۔ رَبِيكَة: کھانے کی ایک قسم۔ اس شخص

نے کھانا کھانے کے بعد پوچھا طلا اور اس کی ماں کا کیا حال ہے؟ طلا ہرن کے بچے کو کہتے ہیں۔ اس نے استعارۃ اپنے بچے کو کہا تھا)

❁ اَوَّلُ الغَزْوِ اَخْرَقُ: پہلا حملہ غیر معمولی ہوتا ہے (تجربات کی کمی کے لئے کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پختگی مشق اور تجربہ سے آتی ہے)

❁ اَغْشَمُ مِنَ السَّيْلِ: سیلاب سے زیادہ ظالم۔

❁ مَنْ غَضِبَ مِنْ لَاشَيْءٍ رَضِيَ مِنْ لَاشَيْءٍ: جو شخص ناقابل ذکر چیز سے غضبناک ہوگا وہ ناقابل ذکر چیز سے راضی بھی ہو جائے گا۔

❁ غَضَبُ الخيلِ عَلَى اللُّجُمُ: گھوڑوں کا غصہ لگاموں پہ ہوتا ہے۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بے فائدہ غصہ کرے۔ غضب کا نصب مصدر ہونے کی وجہ سے ہے)

❁ غَلَّ يَدًا مُطْلِقُها: ہاتھ کو آزاد کرنے والے نے اس میں بیڑیاں ڈال دیں۔ (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھی پر احسان کر کے اسے غلام بنالے)

❁ اذالم تغْلِبْ فَاخْلِبْ: غالب نہ آسکے تو دل موہ لے۔ (غلبہ وتفوق کے ذریعہ اپنی ضرورت حالت حاصل نہ کر سکے تو نرمی اور خوش خلقی سے کام لے)

❁ مَنْ غَالَبَ الأَيَّامَ غُلِبَ: جو زمانہ سے لڑے گا مغلوب ہو جائے گا۔

❁ يَغْلِبْنَ الكِرَامَ وَيَغْلِبُهُنَّ اللِّئامُ: عورتیں تو شریفوں پر غالب آتی ہیں اور کمینے مردان پر غالب ہو جاتے ہیں۔

❁ الْغَمَرَاتُ ثُمَّ يَنْجَلِيْنَ: اب سختیاں ہیں پھر یہ گزر جائیں گی (غمرات: سختیاں: یعنی سختیوں میں صبر و استقامت سے کام لو، عن قریب دور ہو جائیں گی)

❁ غَنِمَ مَنْ سَلِمَ: جو بچ گیا اس نے مال غنیمت حاصل کر لیا۔

❁ اَغْنَى الصَّبَاحُ عَنِ المِصْبَاحِ: صبح نے چراغ سے بے نیاز کر دیا۔

❁ اَغْنَى عن الشيءِ مِنَ الأَقْرَعِ عَنِ المُشْطِ: کسی چیز سے اس سے بھی زیادہ بے نیاز جتنا گنجا کنگھی سے۔

❁ وَهَلْ يُغْنِي مِنَ الحدثانِ لَيْتُ: کیا "کاش" کہنا حوادث سے بے نیاز کر سکتا ہے؟

❁ مَنْ لَمْ يُغْنِهِ مايكفيهِ أَعْجَزَهُ مَا يُغْنِيهِ: جس شخص کو کافی چیز بھی بے نیاز نہ کر سکے اس کو بے نیاز کر دینے والی چیز عاجز کر دے گی (قناعت کی تعریف کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ غِنَى النَّفْسِ أَفْضَلُ مِنْ غِنَى المَالِ: نفس کی بے نیازی دولت کی بے نیازی سے بڑھ کر ہے۔ (یا نفس کی دولت کمائی کی دولت سے زیادہ قابل ترجیح ہے)

❁ إِنَّ الغَنِيَّ طَوِيْلُ الذيلِ مَيَّاسُ: دولت مند دامن دراز اور ناز سے چلنے والا ہوتا ہے۔ (یعنی مالدار اپنی مالداری کو چھپا نہیں سکتا)

❁ مَنْ غَابَ غَابَ نَصِيْبُهُ: جو غائب ہوا اس کا حصہ بھی غائب ہوا (اکثر لوگ غیر حاضر کو بھلا کر اس کی جگہ حاضر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بعض

اس کے برخلاف کہتے ہیں۔ اَقْصَى رَفِيقَيْهِ لَه كَالأَقْرَبِ (اس کے دو رفیقوں میں سے دور ترین اس کے لئے قریب ترین کی طرح ہے)

❁ الغِيبَةُ جُهْدُ العَاجِزِ: پیٹھ پیچھے برائی عاجز کی طاقت ہے۔

❁ كَالمُسْتَغِيثِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بالنار: گرمی کی شدت سے آگ کی مدد کے خواہاں کی طرح (رَمْضَاء سورج کی گرمی کی شدت) ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو معمولی مصیبت سے بچنے کے لئے بڑی مصیبت مول لے)

❁ اَغَيْرَةً وَجُبْنًا: کیا غیرت بھی اور بزدلی بھی (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس میں دو برائیاں اکٹھی ہوں۔ اس مثل کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص دشمن سے لڑائی سے دور رہا اور اپنی قوم کو لڑتے چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو لڑائی دیکھتے ہوئے دیکھ کر مارا پیٹا۔ اس پر بیوی نے کہا: کیا غیرت بھی ہے اور بزدلی بھی۔

❁ غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ: بہت میں سے تھوڑا (غیض: کمی، فیض: بہت یعنی بہت میں سے تھوڑا۔ یہ عربوں کے اس قول کی طرح ہے: بَرْضٌ مِنْ عِدٍّ جس کے معنی بھی بہت میں سے تھوڑا ہے)

❁ عِنْدَ الغَايَةِ يُعْرَفُ السبقُ: انتہا کے وقت سبقت معلوم ہوتی ہے۔ (یعنی سبقت اچھی ابتداء میں نہیں بلکہ اچھی انتہا میں ہوتی ہے)

ف

❁ فَتَلَ في الذُّرْوَةِ والغَارِبِ: اس نے کوہان کے بالائی اور اگلے حصے کو ملا کر بل دے دیا۔ (ذُرْوَة: کوہان یا ہر چیز کا بالائی حصہ۔ غارب: کوہان کا اگلا حصہ: اس کی اصل یہ ہے کہ اونٹ سے چھپا کر اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دی جائے تا کہ وہ مانع نہ ہو، یوں کوہان کے بالائی حصوں کو ملا کر بل دینا کہ اونٹ مانوس ہو جائے اور نکیل ڈال دی جائے۔ خطام اونٹ کی نکیل۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھی کو قابو کرنے تک دھوکا دیتا رہے)

❁ فتًى ولا كَمَالِكٍ: جوان مگر مالک جیسا نہیں۔ (مالک بن نویرہ بن حمزہ مضر بن نزار کے قبیلے کے ایک شخص کا نام ہے جسے خالد بن ولید نے قتل کیا تھا۔ اس کے بھائی متمم کو جسے اس سے بڑی محبت تھی، عرصہ تک اس پر شدید رنج وغم رہا۔ جب لوگ تعزیت کرتے اور ان جوانوں کا بھی ذکر کرتے جو قتل ہوئے تا کہ اس کی تسلی ہو تو متمم کہا کرتا: ایک جوان تو تھا مگر میرے بھائی مالک جیسا نہیں۔ کسی کی فضیلت اور دوسرے کی اس پر ترجیح کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

❁ ایُّ فتًى قَتَلَهُ الدخانُ: کون سا جوان ہے جسے دھوئیں نے مار ڈالا تھا۔ (یہ ایک عورت نے ایک جوان پر نوحہ کرتے ہوئے کہا تھا جو دھوئیں سے مر گیا تھا۔ اس پر اس عورت سے کہا گیا اگر وہ جوان داؤ پیچ جاننے والا ہوتا تو دھوئیں سے دور ہو جاتا۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو داؤ پیچ نہ جانتا ہو)

❁ كُلُّ فَتَاةٍ بِأَبِيهَا مُعْجَبَةٌ: ہر دوشیزہ اپنے باپ پر فخر کرتی ہے (کسی شخص کے اپنے لوگوں اور قریب رشتہ داروں پر استعجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ رُبَّ فَرْحَةٍ تَعُودُ تَرْحَةً: بہت سی خوشیاں رنج بن جاتی ہیں۔

❁ لَيْسَ الْفَرَسُ بِجُلِّهِ: گھوڑا اپنے جھول کی وجہ سے نہیں (یعنی گھوڑے کی قیمت اس کے جھول کی وجہ سے نہیں۔

❁ هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ: وہ دونوں ریس کے گھوڑوں کی طرح ہیں (ایسے دو شخصوں کے لئے کہا جاتا ہے جو قابل تعریف کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوں)

❁ مَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُنَالُ: ہر فرصت دوبارہ نہیں ملا کرتی۔ (یعنی موقع بار بار نہیں آتے)

❁ أَفْرَطَ فَأَسْقَطَ: وہ بہت بولا (اس نے مبالغہ آرائی کی) اس لئے لغزش کھائی۔

❁ تَفَرَّقَ الْقَوْمُ أَيْدِيَ سَبَا وَ أَيَادِيَ سَبَا: لوگ پراگندہ ہوگئے اور ایسے پراگندہ ہوئے کہ اس کے بعد ایک جا نہ ہو سکے۔ (کیونکہ اللہ نے اس زمین پر سیلاب بھیجا جس نے اس زمین کو غرق کر دیا اس کے باغات اجاڑ دیئے۔ یمن کے اکثر قبائل کے مورث اعلیٰ سبا (یا سبا) اور اس کی قوم ترک وطن کر کے وہاں سے چلی گئی اور ملک میں پھیل گئے کوئی کہاں کوئی کہاں۔ چنانچہ ضرب المثل بن گئے۔ بعض کے نزدیک ایدی سبا و ایادی سبا سے مراد سبا کا لشکر ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعے نقب زنی کرتا اور حملوں میں اپنی کارروائیوں کے لئے اس سے کام لیا کرتا تھا یہ حال کی وجہ سے منصوب ہے)

❁ مَنْ فَسَدَتْ بِطَانَتُهُ كَانَ كَمَنْ غَصَّ بِالْمَاءِ: جس کے گھر والے ہی بگڑ جائیں وہ اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جسے پانی سے اچھو لگ جائے (بطانۃ الرجل: کسی شخص کے گھر والے یعنی جب گھر والے یہ بگڑ جائیں تو اس کی حالت کے لئے کوئی دوا کام نہیں کرتی کیونکہ جسے کھانے سے اچھو لگ جائے وہ پانی سے رجوع کرتا ہے، لیکن اگر پانی سے ہی اچھو لگ جائے تو اس کے کوئی تدبیر نہیں۔

❁ أَفْسَدُ مِنَ السُّوسِ: گھن سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا۔

❁ أَفْسَدُ مِنَ الْجَرَادِ: ٹڈی سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا۔

❁ أَفْسَدُ مِنْ أَرَضَةٍ: دیمک سے زیدہ فساد پیدا کرنے والا۔

❁ فَسَا بَيْنَهُمُ الظَّرِبَانُ: ظربان نے ان کے درمیان گوز مار دیا۔ (ضربان: کتے کے پلّے سے تھوڑا بڑا، بدبودار اور بہت گوز مارنے والا جانور۔ کہتے ہیں کہ وہ گوہ کے بل پر آ کر گوز مارے تو گوہ نکل کر اسے کھا جاتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جانور جب اونٹوں کے درمیان گوز مارے تو اونٹ منتشر ہو جاتے ہیں۔ اور چرواہے کو انہیں واپس لانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جنہیں زمانہ کے حوادث متفرق اور منتشر کر دیں۔

❁ أَفْصَحُ مِنْ سَحْبَانَ وَائِلٍ: سحبان وائل سے زیادہ فصیح۔

❁ فَضْلُ الْفِعْلِ عَلَى الْقَوْلِ مَكْرُمَةٌ: عمل کی قول پر برتری عظیم الشان کام ہے۔ جو کہنے سے زیادہ کر کے دکھائے تو یہ لوگوں کی نگاہ میں عالی ظرفی ہے۔

❁ فَضْلُ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ دَنَاءَةٌ: قول کی عمل پر برتری کمینہ پن ہے۔ (یعنی جو شخص اپنے گنوں سے بڑھ کر اپنی تعریف کرے وہ کمینہ ہوتا ہے)۔

❁ الْفَضْلُ لِلْمُبْتَدِئِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْمُقْتَدِي: فضیلت ابتدا کرنے والے کی ہے خواہ پیروی کرنے والا اس سے زیادہ اچھا کام کر کے دکھائے۔

❁ أَفْضَلُ الْمَعْرُوفِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ: بہترین نیکی مصیبت زدہ کی امداد کو پہنچنا ہے۔

❁ لَا أَفْعَلُ كَذَا مَا أَنَّ السَّمَاءَ سَمَاءٌ وَ لَا أَفْعَلُهُ مَا أَنَّ فِي السَّمَاءِ نَجْمًا: میں ایسا نہیں کروں گا جب تک کہ آسمان آسمان ہے۔ یا میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک کہ آسمان میں کوئی ستارہ ہے (یعنی کبھی نہیں کروں گا)

❁ فَكُنْتُ كَفَاقِيءِ عَيْنَيْهِ عَمْدًا: میں اس شخص کی طرح ہو گیا جس نے اپنی آنکھیں عمداً پھوڑ ڈالی ہوں (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنی جان کو خطرہ میں ڈالے۔ فرزدق نے نوار کو طلاق دی پھر پشیمان ہوا اور کہا:

فكنتُ كفاقىءِ عَيْنَيْهِ عمدًا

فأصبح لا يضيءُ له النهارُ

(میں عمداً اپنی آنکھیں پھوڑنے والے کی طرح ہو گیا، جس کے لئے دن روشن نہ ہوتا ہو)

❁ خَيْرُ الْفِقْهِ مَا حَاضَرْتَ بِهِ: بہترین علم وہ ہے ضرورت کے وقت جواب دے سکے۔

❁ لَا تُفَكِّرْ فَلَهَا مُدَبِّرٌ: نہ سوچ، اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔

❁ لَا يَفُلُّ الْحَدِيدَ إِلَّا الْحَدِيدُ: لوہے کو لوہا ہی توڑتا ہے۔

❁ فَمٌ يُسَبِّحُ وَيَدٌ تَذْبَحُ: منہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور ہاتھ قتل کر رہا ہے۔ (بغل میں چھری منہ میں رام رام)

❁ فِي فَمِي مَاءٌ وَهَلْ يَنْطِقُ مَنْ فِي فِيهِ مَاءٌ: میرے منہ میں پانی ہے اور کیا وہ شخص بولتا ہے جس کے منہ میں پانی ہو؟

❁ يَفْنَى مَا فِي الْقُدُورِ وَيَبْقَى مَا فِي الصُّدُورِ: جو ہانڈیوں میں ہو وہ فنا ہو جاتا ہے اور جو سینوں میں ہو وہ باقی رہتا ہے۔

❁ لَمْ يَفُتْ مَنْ لَمْ يَمُتْ: جو مرا نہیں وہ فوت نہیں ہوا (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس سے جلد بدلہ لینے کا موقع نہ ملے اور مستقبل میں اس سے بدلہ لینے کی امید ہو)

❁ الْفَائِتُ لَا يُسْتَدْرَكُ: فوت شدہ پھر نہیں مل سکتا (یعنی جو گیا سو گیا۔

اس معنی میں ایک شعر ہے:

فأصبحتُ لا أسْطِيعُ رَدًّا لِمَا مَضَى
كَمَا لا يُرَدُّ الدَّرُّ في الضرع حالِبُهُ

گزرے ہوئے کولوٹا نا میرے بس میں نہیں جیسے دودھ دوہنے والا دوہے ہوئے دودھ کو تھنوں میں نہیں لوٹا سکتا۔

❁ **أفْوَتُ من أمْسِ:** گزشتہ کل سے زیادہ فوت شدہ۔

❁ **مُفَوِّزٌ عَلَّقَ شَنًّا بَالِيًا:** بیابان طے کرنے والے نے بوسیدہ مشکیزہ لٹکا دیا ہے۔(فَوَّزَ الرجُلُ کا معنی ہے مرد کا بیابان طے کرنے کے لئے چلنا۔شَنّ: مشکیزہ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ساز وسامان کے بغیر بڑے بڑے کام کرنے کا آغاز کرے)

❁ **أفِقْ قَبْلَ أن يُحْفَرَ ثَرَاكَ:** اس سے پہلے کہ تیری قبر کھودی جائے، ہوش میں آجا(یعنی اس سے پہلے کہ تیری رسوائیاں تجھے پریشان کرنے لگیں، انہیں مدفون رکھنے کا انتظام کرلے۔

❁ **أفْوَاهُهَا مَجَاسُّهَا:** ان کے منہ ان کے چھونے کے آلات ہیں(اس معاملہ کے لئے کہا جاتا ہے جس کا ظاہر اس کے باطن کو ظاہر کردے۔ اونٹ جب خوب کھا چکتے ہیں تو ان کی صحت معلوم کرنے اور چھونے کے بارے میں ان کی صلاحیت پر اکتفاء کرلیا جاتا ہے)۔

ق

❁ **قُبَّةُ نَجْرَان:** نجران کا گنبد(ایک عظیم گنبد تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہزار مردوں پر سایہ کرتا تھا وہاں پناہ لینے والے کو پناہ ملتی تھی خوف زدہ کو امن، بھوکے کو شکم سیر کھانا اور حاجتمند کی حاجت پوری ہوتی تھی، اور ان سب باتوں میں ضرب المثل تھا۔ نجران شہر میں یہ گنبد ایک دریا کے کنارے واقع تھا۔عرب اسے نجران کا کعبہ بھی کہتے تھے اور کعبہ کی طرح اس کی زیارت کو آیا کرتے تھے:

❁ **كَالْقَابِسِ الْعَجْلانِ:** جلد باز آگ لینے والے کی طرح(قبس کا معنی آگ لینا ہے۔اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے میں جلدی کرے)۔

❁ **كَالْقَابِضِ عَلَى الْمَاءِ:** (پانی کو مٹھی میں پکڑنے والے کی طرح (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ایسی چیز طلب کرے جو حاصل نہ ہوسکے)

❁ **إنَّهُ لَقُبَضَةٌ رُفَضَةٌ:** وہ تو(کسی چیز کو) جلدی پکڑنے اور جلدی چھوڑ دینے والا ہے اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑلے اور پھر اسے چھوڑنے اور مسترد کرنے میں دیر نہ لگائے)

❁ **قَتَلَتْ أرْضٌ جَاهِلَهَا:** زمین نے اپنے سے بے خبر کو مار ڈالا(اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ایسے کام کو ہاتھ میں لے جس کا اسے کچھ پتہ نہ ہو)

❁ **الْقَتْلُ أنْفَى لِلْقَتْلِ:** قتل قتل کو روکنے والا بھی ہوتا ہے۔(یہ عربوں کے اس قول جیسا ہے: قتلُ البعضِ إحياءٌ لِلْجَمِيعِ (کسی کے قتل سے سب کو زندگی بھی ملتی ہے یا اس قرآنی آیت جیسا ہے، ولَكُمْ في القصاص حياة(اور تمہارے لئے بدلہ میں زندگی ہے)

❁ **مَقْتَلُ الرجُلِ بَيْنَ فَكَّيْهِ:** آدمی کی قتل گاہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے(یعنی بعض اوقات ایسی باتیں کرنا جو نہیں کرنی چاہئیں قتل کا باعث بن جاتی ہیں)۔

❁ **قُدَّتْ سيورُهُ مِنْ أدِيمِكَ:** اس کے تسمے تیری کھال سے کاٹے گئے ہیں(ایسی دو چیزوں کے لئے کہا جاتا ہے جو ایک جیسی ہوں)

❁ **مَنْ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّ أمْسِ او تَطْيِينِ عَيْنِ الشَّمْسِ:** کون ہے جو کل کو لوٹا سکے یا چشمہ آفتاب پر مٹی کا لیپ کرسکے؟

❁ **إنَّ الْمَقْدِرَةَ تُذْهِبُ الْحَفِيظَةَ:** صلاحیت غضب کو زائل کردیتی ہے۔(حفيظة: غضب،قریش کے ایک بڑے شخص کو اپنے دشمن کی تلاش تھی، جب اس نے دشمن پر غلبہ پالیا تو اس نے کہا: اگر صلاحیت سے غضب کو زائل کرنا ممکن نہ ہوتا تو میں تجھ سے انتقام لیتا۔ یہ کہہ کر اس نے دشمن کو چھوڑ دیا۔اس طرح اس قریشی کا یہ قول ضرب المثل بن گیا۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کی صلاحیت غضب کو زائل کردیتی ہے)

❁ **إذَا قَدُمَ الإخَاءُ سَمُجَ الثَّنَاءُ:** جب بھائی چارہ پرانا ہوجاتا ہے تو تعریف نفرت انگیز ہوجاتی ہے۔

❁ **يُقَدِّمُ رِجْلاً ويُؤَخِّرُ أخْرَى:** وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور دوسرا پیچھے ہٹاتا ہے(اپنے معاملات میں تردد کرنے والے کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ **لَيْسَ الْقَوَادِمُ كَالْخَوَافِي:** بازوؤں کے بڑے پر چھوٹے پروں کی طرح نہیں ہوتے۔(قوادِم یا قُدَامَى: بازوؤں کے اگلے حصے کے پر، خوافي: بازو کے چھوٹے پر۔لوگوں میں [illegible] کی وجہ سے ان میں سے کچھ کی دوسروں پر ترجیح کے بارے میں [illegible])

❁ **لِكُلِّ قَدِيمٍ حُرْمَةٌ:** پرانی چیز کی [illegible](حرمة: حرمت، قدر ومنزلت یا واجب الادا الحقوق یا [illegible])

❁ **لَيْسَ لِمَا قَرَّتْ به العَيْنُ ثَمَنٌ:** جس چیز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں۔

❁ **أقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ:** شہ رگ سے زیادہ قریب(ورید یا حبل الورید: گردن کی شہ رگ)

❁ **لاقُرْبَةَ كَحُسْنِ الخُلُقِ:** خوش خلقی سے بہتر کوئی تقرب کا ذریعہ نہیں۔ (قربة: اللہ تعالیٰ یا لوگوں سے قریب ہونے کا ذریعہ)

❁ **إذَا قَرِحَ الْجَنَانُ بَكَتِ الْعَيْنَانِ:** دل زخمی ہو تو آنکھیں روتی ہیں(یہ اس قول کے مفہوم کے قریب ہے: **البُغْضُ تُبْدِيهِ لَكَ الْعَيْنَانِ** (آنکھیں بغض تجھ پر ظاہر کردیتی ہیں)

❁ **إذَا مَا القَارِظُ الْعَنَزِيُّ آبَ:** جب عنزی سلم درخت کے پتے چننے والا

واپس آجائے۔ (بیان کیا جاتا ہے کہ عنزی رھم بن عامر سلم درخت کے پتے تلاش کرنے کیلئے نکلا پھر واپس نہ آیا اور اس کی کوئی خبر معلوم نہ ہوئی۔ اس طرح طویل غیر حاضری کے بارے میں ضرب المثل بن گئی نیز ایسے غائب ہونے کے لئے بھی کہا جاتا ہے جس کی واپسی کی امید نہ ہو۔ یہ شعر کا دوسرا مصرع ہے پہلا مصرع یوں ہے: فَرَجِّي الخَيرَ وانْتَظِرِيْ أيابي (تو خیر کی امید رکھ اور میری واپسی کا انتظار کر)

❁ فُلانٌ لاتُقرَعُ لَهُ العَصَا: فلاں کے لئے عصا نہیں کھٹکھٹایا جاتا (عامر بن ظرب عدوانی کی بڑھاپے میں عقل کمزور ہوگئی تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جب فیصلہ کرتے ہوئے تو میری عقل کی کسی چیز کو نہ مانے تو عصا سے ڈھال کو کھٹکھٹا دیا کرنا تا کہ میں محتاط ہو جایا کروں۔ چنانچہ بیٹی ایسا ہی کیا کرتی تھی، دانا، تجربہ کار اور جہاندیدہ شخص کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ قَرِيْنُكَ سَهْمُكَ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ: تیرا ساتھی تیرا تیر ہے جو کبھی خطا کرتا اور کبھی نشانہ پر لگ جاتا ہے (دوستوں کی غلطیوں سے چشم پوشی کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ أَقْسَى مِنْ صَخْرٍ: چٹان سے زیادہ سنگدل

❁ قَشَرْتُ لَهُ العَصَا: میں نے اس کے لئے عصا چھیلا۔ (اطلاع دینے کے وقت کہا جاتا ہے)

❁ أَقْصَرَ لَمَّا أَبْصَرَ: جب اس نے دیکھا تو باز آ گیا (یعنی برے انجام کو دیکھ کر کسی چیز سے احتراز کیا۔ گناہ سے علیحدگی اختیار کرنے والے کے لئے کہا جاتا ہے۔ اقصار کا معنی کسی چیز سے رک جانا جس کو وہ کر سکتا ہو ہے)

❁ ما أَقْصَرَ اللَيلَ على الراقد: سونے والے پر رات کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔

❁ كُلُّ مُقْتَصَرٍ عَلَيْهِ كَافٍ: ہر چیز جس پر اکتفاء کر لیا جائے کافی ہوتی ہے۔

❁ لِكُلِّ قَضَاءٍ جَالِبٌ وَلِكُلِّ دَرٍّ حَالِبٌ: ہر حکم کا کوئی نہ کوئی لے آنے والا ہوتا ہے اور ہر دودھ کا کوئی دوہنے والا۔

❁ قَطَعَتْ جَهِيْزَةُ قَوْلَ كُلِّ خَطِيْبٍ: جہیزہ نے ہر مقرر کی بات کاٹ دی۔ (اس کی اصل یہ ہے کہ دو قبیلوں کے مابین صلح کے بارے میں لوگ اکٹھے ہو کر تقریریں کر رہے تھے۔ ایک قبیلہ کے ایک شخص نے دوسرے قبیلہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور درخواست کر رہے تھے کہ مقتول کے گھر والے خون بہا پر راضی ہو جائیں۔ اس موقع پر جہیزہ نامی لونڈی نے آکر بتایا کہ مقتول کے وارثوں میں سے کسی نے قاتل پر قابو پا کر اسے قتل کر دیا ہے۔ اس وقت لوگوں نے یہ بات کہی تھی۔ یعنی قطعت جهيزة قول كل خطيب۔ اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ ب گفتگو کی گنجائش نہیں رہی)

❁ إذَا قَطَعْنَا عَلَمًا بَدَا عَلَمٌ: جب ہم ایک پہاڑ کو طے کرتے ہیں تو ایک اور پہاڑ نمودار ہو جاتا ہے۔ (یہاں عَلَم سے پہاڑ مراد ہے۔ یعنی جب ہم کسی تھکا دینے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس جیسا ایک اور کام پیش آجاتا ہے)

❁ تُقَطِّعُ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ المَطَامِعُ: طمعین مردوں کی گردنیں [illegible] دیتی ہیں (لالچ اور حرص کی مذمت کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ مَنْ قَلَّ ذَلَّ وَمَنْ أَمِرَ فَلَّ: جو شخص کم ہوا ذلیل ہو گیا اور جو حاکم ہوا اس نے توڑ ڈالا (مراد جس کے مددگار کم ہوں وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور جس کے مددگار زیادہ ہوں وہ اپنے دشمنوں کی تلواریں کند کر دیتا ہے اور توڑ ڈالتا ہے)

❁ لا قَلِيْلَ مِنَ العَدَاوَةِ وَالإِحَنِ وَالمَرَضِ: تھوڑی سی دشمنی گہرا کینہ اور بیماری بھی کم نہیں۔

❁ قَلَبَ لَهُ ظَهْرَ المِجَنِّ: اس نے اسے ڈھال کی پشت دکھائی (یعنی وہ اس کا مخالف ہو گیا۔ مِجَنّ: ڈھال اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھی سے محبت کرتا ہو اس کا خیال رکھتا ہو پھر اس کا ساتھ چھوڑ دے)

❁ القَلْبُ مِصْحَفُ البَصَرِ: دل بینائی کی کتاب ہے۔

❁ مِنَ القَلْبِ إِلَى القَلْبِ: دل سے دل کی طرف (دل سے دل کو راہ ہے)

❁ فِي بَعْضِ القُلُوبِ عُيُوْنٌ: بعض دلوں میں آنکھیں ہوتی ہیں)

❁ القُلُوبُ تُجَازِي القُلُوبَ: دل ہی دلوں کو بدلہ دیتے ہیں۔

❁ اِقْلَعْ شَوْكَكَ بِيَدِكَ: اپنا کانٹا اپنے ہاتھ سے نکال۔

❁ فِي القَمَرِ ضِيَاءٌ وَالشَّمْسُ أَضْوَأُ مِنْهُ: چاند میں روشنی ہے، لیکن سورج چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ (کسی چیز کو اس جیسی پر ترجیح کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ لاتَقْتَنِ مِنْ كَلْبِ سُوْءٍ جَرْوًا: برے کتے سے پلا حاصل نہ کر۔

❁ كُلُّ قَائِبٍ مِنْ قُوْبَةٍ: ہر چوزہ انڈے سے نکلتا ہے۔ (قائب: چوزہ، قوبة: انڈا۔ (یعنی ہر شاخ اپنی اصل سے ہی ظاہر ہوتی ہے)

❁ مَنْ قَالَ مالا ينبغي سَمِعَ مَالَا يَشْتَهِي: جو شخص نامناسب بات کہے گا وہ نامرغوب باتیں سنے گا۔

❁ لَوْ قُلْتُ تَمْرَةً لَقَالَ جَمْرَةً: اگر میں کھجور کہوں تو وہ انگارہ کہے گا (خواہشات کے اختلاف پر کہا جاتا ہے)

❁ قَدْ قِيْلَ ذَلِكَ إِنْ حَقًّا وَإِنْ كَذِبًا: یہ بات تو کہی جا چکی، سچ ہو یا جھوٹ۔

❁ إذا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا

فَإِنَّ القَوْلَ مَاقَالَتْ حَذَامِ

(جب حذام کوئی بات کہے تو اسے سچا سمجھو؛ کیونکہ قول وہی درست ہے جو حذام نے کہا ہر مصرع کسی شخص کے اپنے ساتھی کو سچا سمجھنے کے بارے میں ہے)

❁ القولُ يَنفُذُ مالا تنفذُ الإبَرُ: بات اس سے بھی گزر جاتی ہے جس سے سوئی نہیں گزر سکتی۔

❁ مَا كُلُّ قَوْلٍ لَهُ جَوَاب: ہر بات کا جواب نہیں ہوتا۔

❁ رُبَّ قَولٍ أَشَدُّ مِنْ صَوْلٍ: بہت سی باتیں حملہ سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔(ایسی بات کے وقت کہا جاتا ہے جو اس شخص پر اثر انداز ہو جس سے اس کا سامنا کرایا جائے۔صول: جھگڑے اور جنگ کے وقت حملہ)

❁ وَبَعْضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرياح: بعض باتیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔

❁ إذا قَامَ بك الشرُّ فَاقْعُدْ: جب شر تجھے کھڑا کرے تو بیٹھ جا،کر۔(اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے بردباری کا اور برائی کی طرف جلدی بڑھنا ترک کرنے کا حکم دیا جائے)

❁ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ: ہر جگہ کے لئے کوئی نہ کوئی گفتگو ہوتی ہے (ہر معاملہ،عمل یا گفتگو کے لئے ایک جگہ ہوتی ہے وہ اسی موقع پر ہونا چاہئے۔

❁ هَلْ يَسْتَقِيمُ الظِلُّ وَالعُودُ أَعْوَجُ: کیا سایہ سیدھا رہ سکتا ہے جبکہ لکڑی ٹیڑھی ہو؟

❁ قِيمَةُ كُلِّ امْرِىءٍ مَا يُحسِنُهُ: ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو اسے اچھا بنائے۔

ک

❁ أَكْبَرُ مِنْ لُبَدْ: لبد سے زیادہ عمر والا(بعد لقمان بن عاد کی مبینہ طور پر منتخب کی ہوئی سات گدھوں میں سے ایک کا نام جو ایک طویل مدت تک زندہ رہا)

❁ أَكْتَمُ مِنَ الأَرض: زمین سے زیادہ چھپانے والا۔

❁ مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ: جو زیادہ بولے گا بکواس ہی کرے گا۔(اِهجار، بیہودہ باتیں کرنا،ہذیاں بکنا اِکْثار: گفتگو میں سوچ بچار اور اعتدال کی حدود سے تجاوز کرنا)

❁ تُكْثِرُ الحزَّ وتُخطِئُ المَفْصِلَ: تو بہت کاٹتا ہے مگر جوڑ کو نہیں پکڑ سکتا۔(حزّ: کاٹنا،مَفْصِل مَفاصِل کا واحد بمعنی جوڑ۔اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بڑی کوشش کرکے بھی مراد حاصل نہ کر سکے)

❁ مِنْ كَثْرَةِ المَلَّاحِينَ غَرِقَتِ السَفِينَةُ: ملاحوں کی کثرت سے جہاز ڈوب گیا۔

❁ إذا كَانَ لَكَ أَكْثَرِيْ فَتَجَافَ لِيْ عَنْ أَيْسَرِي: جب میرا بہت تمہارے لئے ہی ہو تو میری خاطر میرے تھوڑے سے دور رہو۔(یعنی جس دوست کی بہت سی باتوں پر تو اس کی تعریف کرتا ہے اس کی چند برائیوں کو برداشت کر)

❁ المِكْثَارُ كَحَاطِبِ لَيْلٍ: زیادہ بولنے والا رات کو لکڑیاں اکٹھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔(اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ہر وہ بات کہہ دے جو اس کے دل میں آئے یوں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے کی طرح ہوگا۔اس کو رات کی لکڑیاں جمع کرنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے۔بے خبری میں کوئی سانپ اسے ڈس لے یا کوئی بچھو ڈنک مار دے)

❁ إكْدَحْ لِي أَكْدَحْ لَكَ: تو میرے لئے کوشش کر میں تیرے لئے کوشش کروں گا(کدح: کدو کاوش کرنا)

❁ أَكْذِبِ النفسَ إذا حَدَّثْتَهَا: جب تو اپنے دل سے باتیں کرے تو اس سے جھوٹ بول(جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو دل کو جسارت پر آمادہ کرتے ہوئے اسے کامیابی اور امیدیں برآنے کی باتیں کر،ناکامی کی بات نہ کر ورنہ اسے مایوس کر دے گا،جسارت پر اکسانے کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ الكَذِبُ دَاءٌ وَالصِدْقُ شِفَاءٌ: جھوٹ بیماری اور سچ شفاء ہے۔

❁ إنْ كَذِبٌ نَجَّى فَصِدْقٌ أَخْلَقُ: اگر جھوٹ نے نجات دیدی تو سچ بدرجہ اولی نجات دینے والا ہے(گمشدہ حصہ کا نحوی معنی اس طرح ہے:
إنْ نَجَّى كذبٌ فالصدق أجدَر و أولى بالتنجية)

❁ أكذب مِنْ يلمع وهو السراب: سراب سے زیادہ جھوٹا۔

❁ أَكْذَبُ أُحْدُوثَةً مِنْ أَسِيرٍ: قیدی سے زیادہ جھوٹ روایت کرنے والا۔

❁ أَكْذَبُ مِنَ الأَخِيذِ: قیدی سے زیادہ جھوٹا(جو نجات پانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے)

❁ أَكْذَبُ مَنْ دَبَّ وَدَرَجَ: زندوں اور مردوں میں سب سے زیادہ جھوٹا(دَرَجَ القومُ: ناپید ہو جانا،فنا ہو جانا،من دب و درج زندہ اور مردہ لوگ)

❁ إنْ كُنْتَ كَذُوبا فكُنْ ذَكُورًا: اگر تو جھوٹا ہے تو یاد رکھنے والا بن (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو جھوٹ بولتا ہو پھر بھول جاتا ہو اور الٹ کہہ دیتا ہو)

❁ كَانَ كُرَاعًا فَصَارَ ذِرَاعًا: وہ پاؤں تھا پھر بازو بن گیا۔(کُراع: پاؤں،ٹخنوں سے نیچے کا حصہ(کمزور اور ذلیل شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو قوی اور معزز بن جائے۔

❁ حتام تكْرَعُ ولا تنقَعُ: تو کب تک منہ ڈال کر پانی پیتا رہے گا اور سیر نہ ہوگا؟(كَرَعَ الماء منہ ڈال کر پانی پینا۔نقع: سیراب ہونا(جمع کرنے کے حریص کے لئے کہا جاتا ہے۔

❁ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هانت عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ: جس شخص کو اپنا نفس عزیز ہوگا اس وانی شہوت حقیر معلوم ہوں۔

❁ إسْتَكْرَمْتَ فَارْتَبِطْ: تو نے شریف الاصل گھوڑا لیا ہے۔لہذا اسے باندھے(اچھی چیز کی حفاظت کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ أكْرَمُ مِنْ حاتِمِ طَيٍّ: حاتم طائی سے زیادہ سخی۔

❁ الكَرِيمُ اذا رحم عَلَى الضَيْم ... شریف آدمی کو ظلم پر مائل کیا

جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے۔

❁ مُكْرَهٌ أَخُوكَ لَا بَطَلٌ: تیرا بھائی مجبور کیا گیا ہے بہادر نہیں (یعنی وہ اس بات پر اکسایا گیا بہادری طبعی نہیں۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جسے ایسی کام پر اکسایا جائے جو اس کی عادت کے خلاف ہو)

❁ أَكْسَبُ مِنْ نَمْلٍ: چیونٹی سے زیادہ کمانے والا (کیونکہ چیونٹی ہر وقت ذخیرہ کرنے کی دھن میں لگی رہتی ہے کوئی اور جانور ایسا نہیں)

❁ أَكْسَبُ مِنْ ذِئْبٍ: بھیڑیے سے زیادہ طلب کرنے والا (کیونکہ وہ ہمیشہ شکار کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے نہ آرام کرتا ہے نہ سوتا ہے)

❁ أَكْسَفًا وَإِمْسَاكًا: کیا تیوری چڑھانا اور بخل دونوں (كسف الوجه: تیوری چڑھانا۔ امساك المال: بخل، کنجوسی تیوری چڑھانے والے بخیل کے لئے کہا جاتا ہے)

❁ أَكْسَى مِنْ بَصَلَةٍ: پیاز سے زیادہ لباس پہننے والا (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بہت سے لباس پہنے ہوئے ہو۔ پیاز کی مثال اس لئے دی جاتی ہے کہ اس کے چھلکے ایک دوسرے پر تہہ بتہہ ہوتے ہیں)

❁ كَعْبَةُ نَجْرَانَ: نجران کا کعبہ۔ نجران یمن کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کعبہ کا حج کیا جاتا تھا، جو برباد ہو گیا۔ ملک کی بربادی اور زوال کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ كَالْكَعْبَةِ تُزَارُ وَلَا تَزُورُ: جس کی زیارت کعبہ کی طرح کی جاتی ہو وہ کسی کی زیارت کو نہیں جایا کرتا۔

❁ هَذَا الْكَعْكُ مِنْ ذَاكَ الْعَجِينِ: یہ کیک اسی آٹے کا بنا ہوا ہے۔

❁ الْكُفْرُ مَخْبَثَةٌ لِنَفْسِ الْمُنْعِمِ: کفران نعمت منعم کے نفس کو خراب کرنے کا باعث ہے۔ (كفر کفران نعمت، مَخْبَثَة: خراب کرنے کا باعث، یعنی ناشکری محسن کے دل کو اس شخص کیلئے خراب کر دیتی ہے جس پر احسان کیا گیا ہو)

❁ الْكَفَالَةُ نَدَامَةٌ: ضمانت پشیمانی کا موجب ہے۔

❁ كَفَى الْمَرْءَ فَضْلًا أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ: آدمی کی برتری کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے عیوب شمار کئے جائیں۔

❁ يَكْفِيكَ مِمَّا لَا تَرَى مَا قَدْ تَرَى: تیرے لئے دیکھی ہوئی چیزیں ان دیکھی چیزوں کی بہ نسبت کافی ہیں۔ (دیکھی ہوئی چیزوں سے سبق حاصل کرنا اور ان دیکھی چیزوں کو نہ آزمانے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ مَنْ كَانَ لَكَ كُلُّهُ كَانَ عَلَيْكَ كَلُّهُ: جو شخص پورا تمہارے لئے ہے اس کا پورا بوجھ تم پر ہے۔ (كَلّ: بوجھ)

❁ وَالْكَلُّ مَحْمُولٌ عَلَى ذِي الْفَضْلِ: بوجھ اہل کرم پر ڈالا جاتا ہے۔

❁ كُلُّ كَلْبٍ بِبَابِهِ نَبَّاحٌ: ہر کتا اپنے دروازہ پر بھونکنے والا ہے۔

❁ الْكَلْبُ كَلْبٌ وَلَوْ طَوَّقْتَهُ ذَهَبًا: کتا کتا ہی رہے گا خواہ تو اس کے گلے میں سونے کا طوق ڈال دے۔

❁ كَلْبٌ عَسَّ خَيْرٌ مِنْ أَسَدٍ رَبَضَ: گھومنے اور تلاش کرنے والا کتا آرام گاہ میں بیٹھے ہوئے شیر سے بہتر ہے۔ (عَسّ: تلاش کرنا، طواف کرنا یعنی گھومنا)

❁ كَلَّفْتَنِي مُخَّ الْبَعُوضِ: تو نے مجھے مچھر کا مغز لانے کا کام سونپا ہے (ایسے شخص کیلئے کہا جاتا ہے جسے بھاری یا ناممکن کام سپرد کیا جائے۔)

❁ كَلِفْتُ إِلَيْكَ عَرَقَ الْقِرْبَةِ: میں نے تیری طرف آنے میں مشکیزہ کے پسینہ کی تکلیف اٹھائی۔ (دراصل کہا گیا ہے: كلفت نفسي في الوصول اليك عرق القربة یعنی اتنی تکلیف اٹھائی جتنی مشکیزہ اٹھانے میں ہوتی ہے)

❁ لَيْسَ مَعَ التَّكَلُّفِ تَظَرُّفٌ: تکلف کے ساتھ ظرافت نہیں ہوتی۔

❁ كَلَامُ اللَّيْلِ يَمْحُوهُ النَّهَارُ: دن رات کی بات کو مٹا دیتا ہے۔

❁ كَلَامٌ كَالْعَسَلِ وَفِعْلٌ كَالْأَسَلِ: کلام شہد جیسا اور کام نیزہ جیسا (قول و فعل کے تضاد کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ كَلَامٌ لَيِّنٌ وَظُلْمٌ بَيِّنٌ: گفتگو نرم اور ظلم کھلم کھلا)

❁ كَلَامُهُ رِيحٌ فِي قَفَصٍ: اس کا کلام پنجرہ میں ہوا کی طرح ہے۔

❁ لِكُلِّ كَلَامٍ جَوَابٌ: ہر کلام کا جواب ہوتا ہے۔

❁ رُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً: بہت سے کلمات نعمت سلب کر دیتے ہیں۔

❁ لَوْ كُوِيتُ على داءٍ لم اكرهْ: اگر مجھے بیماری کی بنا پر داغ دیا جاتا تو میں ناگوار نہ سمجھتا (یعنی اگر مجھے کسی جرم پر سزا دی جاتی تو میں برا نہ مانتا)

❁ الْكَيْسُ نِصْفُ الْعَيْشِ: دانائی نصف روزی ہے۔

ل

❁ تَلَبَّدِي تَصِيدِي: زمین سے چمٹ جا شکار کر لے گا۔ (تَلَبَّدَ: شکار کو دھوکا دینے کے لئے زمین سے چمٹ جانا۔ اس مثل کا معنی ہے عیاری سے کام لے طاقت ور اور کامیاب ہو جائے گا)

❁ لَبِسَ لَهُ جِلْدَ النَّمِرِ: اس کے لئے چیتے کی کھال اوڑھ لی (دشمنی ظاہر کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ بَعْدَ اللُّتَيَّا وَالَّتِي: بعد از خرابی بسیار (طویل بحثوں کے بعد، اللتیا والتي: چھوٹی بڑی مصیبت۔ اس کی اصل یہ بتائی جاتی ہے کہ جدیس کے ایک شخص نے ایک پستہ عورت سے شادی کی جس سے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں جسے وہ برے لفظوں میں بیان کیا کرتا تھا پھر ایک دراز قد عورت سے نکاح کیا جس سے پہلی بیوی سے بھی زیادہ تکلیفیں اٹھائیں چنانچہ اسے طلاق دیدی اور کہا بعد از خرابی بسیار میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔

❁ وَمِنَ اللَّجَاجَةِ مَا يَضُرُّ وَيَنْفَعُ: بعض مباحثہ جوئیاں مضر بھی ہوتی ہیں اور فائدہ رساں بھی۔

❁ اللَّحْظُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً من اللفظ: نگاہ الفاظ کی بہ نسبت زیادہ سچی خبر دیتی ہے (یعنی محبت اور نفرت کا اثر آنکھوں میں ظاہر ہو جاتا ہے لہٰذا زبانی کلام پر بھروسہ نہیں کیا جاتا)

- لَأُلْحِقَنَّ حَوَاقِنَهُ بِذَوَاقِنِهِ: میں اس کے معدہ کو ٹھوڑی سے ملا دوں گا۔ (حَوَاقِن: پیٹ میں کھانا روکنے کے اعضاء، ذَوَاقِن: ٹھوڑی اور اس کا نچلا حصہ۔ دھمکی اور دھمکانے کے بارے میں کہا جاتا ہے)
- إذَا تَلاحَتِ الخُصُومُ تَسَافَهَتِ الحُلُومُ: جب دشمن دشنام طرازی پر اتر آتے ہیں تو برداشتیں بے وقوف بن جاتی ہیں (تلاحی: لعنت ملامت کرنا۔ یعنی اس وقت بردبار شخص بھی بے وقوف بن جاتا ہے)
- مَنْ لَاحَاكَ فَقَدْ عَادَاكَ: جس نے تجھے برا بھلا کہا اس نے تجھ سے دشمنی کی (مُلاحَاة: ایک دوسرے کو ملامت کرنا برا بھلا کہنا)
- تَلْدَغُ العَقْرَبُ وَتَصِيءُ: بچھو ڈنک بھی مارتا ہے اور چیختا بھی ہے (صَاءَ الفارُ والعقربُ والخنزيرُ وَمَا شَابَهَهَا: چوہے، بچھو، خنزیر اور ان جیسے جانوروں کا چیخنا، آواز نکالنا، اس ظالم کے لئے کہا جاتا ہے جو شکایت بھی کرے)
- أَلَذُّ مِنَ الغَنِيمَةِ البَارِدَةِ: آسان شکار سے بھی زیادہ لذیذ (غنیمت باردہ: وہ غنیمت جس کے حصول میں مشقت نہ کرنی پڑے)
- أَلَذُّ مِنَ المُنَى: آرزوؤں سے زیادہ لذیذ۔
- أَلْزَمُ لِلْمَرْءِ مِنْ ظِلِّهِ: سایہ سے بھی زیادہ آدمی کے ساتھ لگا رہنے والا۔ (کیونکہ سایہ جس کا ہو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے)
- أَلْزَمُ مِنَ اليمينِ لِلشِّمَالِ: بائیں کے دائیں سے بھی زیادہ ساتھ رہنے والا۔
- أَلْزَمُ مِنْ زِرٍّ لِعُرْوَةٍ: بٹن کے کاج کے ساتھ رہنے سے بھی زیادہ ساتھ رہنے والا۔
- لِسَانُ الحَالِ أَبْيَنُ من لِسَانِ المَقَالِ: لسان حال زبان قال سے زیادہ واضح ہے۔
- لِسَانٌ مِنْ رُطَبٍ وَيَدٌ مِنْ خَشَبٍ: زبان تر کھجور اور ہاتھ لکڑی کا ہے (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو خوبصورت باتیں کرے مگر بے فیض ہو)
- لِسَانُ المَرْءِ مِنْ خَدَمِ الفُؤَادِ: آدمی کی زبان دل کے خادموں میں سے ہے۔
- اللِّسَانُ مَرْكَبٌ ذَلُولٌ: زبان سدھائی ہوئی سواری ہے (یعنی انسان اچھی اور بری باتیں کر سکتا ہے لہٰذا وہ اپنی زبان کو بری باتوں کا عادی نہیں بناتا)
- اللُّقَمُ تُورِثُ النِّقَمَ: لقمے انتقام، بغض کینہ وغیرہ کا باعث ہوتے ہیں (رشوت لینے کی مذمت کے بارے میں کہا جاتا ہے یعنی اگر رشوت دینے والے کی مراد پوری نہ ہو تو رشوت کے لقمے اللہ تعالیٰ اور رشوت دینے والے کی طرف سے عذاب اور سزا اور بدلہ کا باعث بنتے ہیں)
- لَوْ أَلْقَمْتَهُ عَسَلاً لَعَضَّ إِصْبَعِي: اگر تو اسے شہد کھلائے تو وہ میری انگلی پر دانت گاڑ دے گا۔
- كَأَنَّمَا أَلْقَمَهُ الحَجَرَ: گویا اس نے اسے پتھر نگلوا دیا (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بولے تو اسے مسکت جواب ملے)
- لَقِيتُ مِنْهُ عَرَقَ القِرْبَةِ: میں نے اس سے مشک کا پسینہ برداشت کیا (یعنی اس سے سختی اور محنت برداشت کی جس طرح مشک اٹھانے والے کو سختی اٹھانی پڑے تو اسے پسینہ آجاتا ہے۔
- مَا يَلْقَى الشَّجِيُّ مِنَ الخَلِيِّ: غمگین بے غم سے کیا پائے گا۔ (شجی: غمگین، خلی: بے غم، جسے غمگین کرنے والی مصیبت سے نہ آزمایا گیا ہو)
- أَلْقِ حَبْلَهُ عَلَى غَارِبِهِ: اس کی رسی اس کے کوہان پر ڈال دو (یعنی اسے کھلا چھوڑ دے، جہاں چاہے جائے جو چاہے کرے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ جب عرب اونٹنی کو چرانے کے لئے بھیجنے کا ارادہ کرتے تو اس کی رسی اس کے کندھے پر ڈال دیتے اور رسی کو نیچے گرا ہوا نہ رہنے دیتے تاکہ وہ اونٹنی کے چرنے میں رکاوٹ نہ بنے، معنیٰ ہے اسے جانے دے جہاں چاہے جائے یا جو چاہے کرے)
- أَلْقِ فِي الدِّلاءِ دَلْوَكَ: ڈولوں میں تم بھی اپنا ڈول ڈال دو (مال کمانے کی ترغیب اور طلب رزق میں بے اعتنائی ترک کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)
- أَنَّى يَلْتَقِي سُهَيْلٌ والسُّهَى: سہیل اور سہا کہاں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ (سہیل: قطب جنوبی کے پاس ایک ستارے کا نام ہے، سہا: قطب شمالی کے نزدیک سات ستاروں میں ایک چھوٹے ستارے کا نام ہے)، لہٰذا ان کا آپس میں ملنا محال ہے۔
- مَنْ يَلْقَى أَبْطَالَ الرِّجَالِ يُكْلَمْ: جو دلیر مردوں سے مقابلہ کرے گا زخمی ہو جائے گا۔
- بِغَيْرِ اللَّهْوِ تَرْتَتِقُ الفُتُوقُ: کھیل کود سے شگاف پر نہیں ہوتے۔ (معاملات میں جدوجہد سے کام لینے پر اکسانے کے لئے کہا جاتا ہے)
- لَيْسَ يُلامُ هَارِبٌ مِنْ حَتْفِهِ: اپنی موت سے بھاگنے والے کو ملامت نہیں کی جاتی۔
- رُبَّ لائِمٍ مُلِيمٌ: بہت سے ملامت کرنے والے خود قابل ملامت ہوتے ہیں۔
- رُبَّ مَلُومٍ لاذَنْبَ لَهُ: بہت سے ملامت کئے گئے لوگ بے گناہ ہوتے ہیں۔
- رُبَّ مَلُومٍ لا عُذْرَ لَهُ: بہت سے ملامت کئے گئے لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا۔ (یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ عذر ایسا بھی ہوتا ہے جس کا اعلان اور اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ یہ رُبَّ مَلُومٍ لا ذَنْبَ لَهُ کے معنی میں ہے۔ چنانچہ اس پر شاعر کا یہ قول صادق آتا ہے: لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا وأنتَ تَلُومُ: شاید اس کے پاس کوئی عذر ہو جبکہ تو اس کو ملامت کر رہا ہے)
- اللَّيْلُ أَخْفَى لِلْوَيْلِ: رات دکھ تکلیف کو زیادہ چھپانے والی ہے (کیونکہ رات انسان کے ہر فعل کی پردہ پوشی کرتی ہے)

❁ اللَّيلُ طَوِيلٌ وَأنتَ مُقمِرٌ: رات لمبی ہے اور تو چاندنی میں ہے (ضرورت ممکن ہونے تک صبر سے کام لینے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے اپنی ضرورت پر صبر کر تو اسے رات کے بقیہ حصہ میں پا لے گا۔ رات لمبی ہے اور تاریک نہیں کہ تیرے مقصد میں مانع ہو)

❁ مَا كَانَ لَيلِي عَن صَبَاحٍ يَنجَلِي: میری رات صبح کو ظاہر نہیں کرتی تھی (اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو عرصہ بعد ہی اپنا مطلوب پا سکے)

❁ إنَّهُ اللَّيلُ وَأضوَاجُ الوادي: یہ رات ہی ہے اور وادی کے پیچ وخم (اضواج: ضوج کی جمع ہے۔ ضوج کا معنی وادی کا موڑ ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی رات کے وقت وادیوں کے نشیبی علاقوں میں چلا جا رہا ہو ایسی حالت میں بے خبری میں قتل ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ (دو خوفناک معاملوں سے خبردار کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ لَيِّنُ الكَلَامِ قَيدُ القُلُوبِ: نرم بات دلوں کی بیڑی ہے۔

م

❁ مِثلُ النَّعَامَةِ لا طيرٌ ولا جملٌ: شترمرغ کی طرح نہ پرندہ ہے نہ اونٹ (کہ خیر یا شر کے طور پر انعام میں دیا جائے)

❁ مِثلُ ابنةِ الجبلِ مَهمَا يُقَلْ تَقُلْ: صدائے بازگشت کی طرح کہ جب کوئی بولے وہ بول اٹھے۔ الإمَّعَة: ہر ایک کی رائے کی تائید کرنے والا۔ ابنة الجبل: صدائے بازگشت: مراد ایسا شخص جو ہر کسی کی فرمانبرداری کرے۔

❁ لِمِثلِ هذا كنت أُحسِيكَ الحَسَا: میں ایسے ہی وقت کے لئے تجھے حریرہ پلاتا تھا، اسی وقت کے لئے تجھے پالا پوسا تھا۔ اب میری ضرورت پر کام آ۔

❁ بِمِثلِي يُنكَأُ القَرحُ: مجھ جیسے شخص کے ہاتھوں زخم کریدا جاتا ہے۔ یعنی میرے ذریعے ہی برائی کا خاتمہ ممکن ہے۔

❁ مَن مَحَّضَكَ مودَّتَهُ فقد خَوَّلَكَ مُهجَتَهُ: جس نے اپنی محبت کو تیرے لئے پرخلوص کیا اس نے تجھے اپنی جان کا مالک بنا دیا۔ مَحَّضَهُ مودَّة: کسی کے لئے محبت کو خالص کر دینا۔

❁ عِندَ الإمتِحانِ يُكرَمُ المَرءُ أو يُهَانُ: آزمائش پر ہی آدمی معزز یا ذلیل ہوتا ہے۔

❁ مَعَ المَخضِ يبدو الزُّبدُ: مکھن تو بلونے پر ہی نکلا کرتا ہے۔ یعنی کوشش سے یہ مراد بر آتی ہے۔

❁ قَد كَانَ ذَلِكَ مَرَّةً فَاليَومَ لا: یہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے۔ آج نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی تھا اب نہیں ہے۔

❁ أمَرُّ مِنَ العَلقَمِ: اندرائن سے زیادہ کڑوا۔

❁ أمَرُّ مِنَ الحنظلِ: اندرائن سے زیادہ کڑوا۔

❁ المَرءُ بِأصغَرَيهِ: آدمی اپنے دل اور زبان سے ہی آدمی کہلاتا ہے۔ دل اور زبان کو اصغران ان کے چھوٹے حجم کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے دل اور زبان سے ہی کیا جاتا ہے۔

❁ المَرءُ تَوَّاقٌ إلَى مَا لَم يَنَلْ: آدمی ان چیزوں کا ہی متمنی ہوتا ہے جو اسے نہ ملی ہوں۔ یعنی جس چیز سے انسان کو روکا جائے اسی کا خواستگار ہوتا ہے۔ اسی جیسا عربوں کا یہ کہنا بھی ہے: اَحَبُّ شيءٍ إلى الانسان ما مُنِعَا: جس چیز سے انسان کو روکا جائے وہی اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔

❁ المَرءُ حَيثُ يَضَعُ نَفسَهُ: انسان کا درجہ وہی ہوتا ہے جہاں وہ خود کو ذلیل کرے۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے۔

❁ المَرءُ بِخَلِيلِهِ: اس کا معنی ہے تو اپنے دوست سے منسوب کیا جائے گا لہٰذا دیکھ کہ تو کس سے دوستی کر رہا ہے۔ جیسا کسی کا دوست ہو ویسا ہی وہ خود ہوتا ہے۔

❁ المَرءُ مِرآةُ أخِيهِ: آدمی اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔

❁ كُلُّ امرِئٍ يَحتَطِبُ بِحَبلِهِ: ہر آدمی اپنی رسی میں جلانے کی لکڑیاں جمع کرتا ہے۔

❁ كُلُّ امرِئٍ في بيته صَبِيٌّ: ہر آدمی اپنے گھر میں بچہ ہوتا ہے۔ یعنی ادب آداب چھوڑ کر مزاح پر اتر آتا ہے۔

❁ كُلُّ امرِئٍ فيه مَا يُرمَى بِهِ: ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے جس کا اس پر الزام لگایا جا سکے۔

❁ تَمَرَّدَ مَارِدٌ وعَزَّ الأبلَقُ: مارد نے سرکشی کی اور ابلق سخت ہو گیا۔ یعنی حصول مقصد مشکل ہو گیا۔ مارد دومۃ الجندل کا ایک قلعہ تھا اور الابلق سموأل بن عادیا کا ایک قلعہ تھا، کیونکہ یہ مختلف رنگوں کے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ جزیرہ کی ملکہ الزباء ان قلعوں کو فتح کرنے کے لئے گئی مگر ناکام رہی۔ اس پر اس نے یہ بات کہی جو ضرب المثل بن گئی جو ہر ایسے کام پر بولی جاتی ہے جسے بجا لانا اس کے خواہاں کے لئے مشکل اور ناممکن ہو۔

❁ مَن مَرِضَت سَرِيرَتُهُ مَاتَت عَلَانِيَتُهُ: جس کا باطن بیمار ہو اس کا ظاہر مر جائے گا۔

❁ أمرَعَتِ العَجزَاءُ: ریت کا ٹیلہ سرسبز ہو گیا۔ العجزاء: ریت کا ٹیلہ۔ أمرَعَت: سرسبز ہو گیا۔ بھلائی کے ایسی جگہ سے آنے پر بولا جاتا ہے جہاں سے اس کی امید نہ ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پتھر میں جونک لگ گئی۔

❁ أمرَعتَ فَانزِل: تو نے سرسبز جگہ پالی ہے لہٰذا یہیں اتر پڑ۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جسے اس کی ضرورت یا خواہش کی چیز مل جائے۔

❁ كَالمُتَمَرِّغِ فِي دَمِ القَتِيلِ: مقتول کے خون میں لوٹنے والے کی طرح۔ شر سے فریب اور مضرت رساں چیز کے سامنے ہوتے ہوئے اس سے علیحدہ رہنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

❁ أمرَقُ مِن سَهمٍ: تیر سے زیادہ پار ہونے والا۔

❁ الْمُزَاحُ لَقَاحُ الضَّغَائِنِ: مذاق سے دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ کبھی کسی سے مذاق آپس میں نفرت کا باعث ہو جاتا ہے۔
❁ الْمُزَاحَةُ تُذْهِبُ الْمَهَابَةَ: مذاق سے رعب جاتا رہتا ہے۔
❁ مَنْ يَمْشِ يَرْضَ بِمَارَكِبَ: جو شخص پیدل چلے گا سواری پر رضامند ہو جائے گا۔ اس شخص کے متعلق کہا جاتا ہے جو قابل نفرت کام پر مجبور ہو جائے۔
❁ أَمْضَى مِنَ الرِّيحِ: ہوا سے زیادہ تیز۔
❁ أَمْضَى مِنَ السَّيْفِ: تلوار سے زیادہ تیز۔
❁ أَمْضَى مِنَ السَّهْمِ: تیر سے زیادہ کاٹنے والا۔
❁ أَمْضَى مِنَ الْأَجَلِ: موت سے زیادہ اثر آفرین۔
❁ أَمْضَى مِنَ الْقَدَرِ الْمُتَاحِ: مقررہ تقدیر سے زیادہ واضح۔
❁ يَحْسِبُ الْمَمْطُورُ أَنَّ كُلًّا مُطِرَ: بارش میں بھیگ جانے والا سمجھتا ہے سب ہی بھیگ گئے ہیں۔
❁ الْمُعَيْدِيُّ تَسْمَعُ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ: معیدی جس کے متعلق تو سنتا ہے اس کو دیکھنے سے بہتر ہے۔ دور کے ڈھول سہانے۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کی خبر اس کو دیکھنے سے بہتر ہو۔ مُعَيْد: ایک قبیلے کا نام۔ معیدی اس قبیلہ کا ایک شخص نعمان کے مال پر ڈاکہ ڈالتا رہتا تھا مگر نعمان کے ہاتھ نہ آتا۔ نعمان نے معیدی کی بہادری اور جرأت سن سن کر اسے امان دیدی۔ جب اسے دیکھا تو اس کی ہتک کی، کیونکہ وہ بدصورت تھا۔ اس موقع پر اس نے کہا معیدی کے بارے میں سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے۔ معیدی نے سنا تو جواب دیا کہ لوگ اونٹ تو نہیں۔ آدمی تو اپنے زبان وقلب سے پہچانا جاتا ہے۔ نعمان کو اس کی بات پسند آئی اور اسے اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا۔
❁ قَدْ يُمَكِّنُ الْمُهْرُ بعد ما رَمَحَ: کبھی بچھیرا دولتی مارنے کے بعد سوار کو اختیار دیتا ہے۔ یہ سرکشی کے بعد قابو میں آنے والے کے متعلق کہا جاتا ہے۔
❁ لَيسَ لِمَلُولٍ صَدِيقٌ: بیزار کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔
❁ مِنْ كَثْرَةِ الْمَلَّاحِينَ غَرِقَتِ السَّفِينَةُ: ملاحوں کی کثرت سے جہاز ڈوب گیا۔
❁ مَلِّكْ ذَا أَمْرٍ أَمْرَهُ: کام کے لائق شخص ہی کو کام کا مالک بناؤ۔ یعنی کام اس کے سپرد کرو جو اس کے کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو۔
❁ ما أَمْلِكُ شَدًّا وَلا إِرْخَاءً: باندھنا اور ڈھیلا کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ یہ بات وہ شخص کہتا ہے جس کو کسی معاملہ یا کام کا ذمہ دار بنایا گیا ہو۔ مطلب یہ کہ میں یہ دونوں کاموں کو نہیں کر سکتا۔
❁ لَايَمْلِكُ شَرْوَى نَقِيرٍ: وہ تو کھجور کی گٹھلی کے گڑھے جیسی چیز کا بھی مالک نہیں۔ الشروى: مثل، مانند۔ النقير: کھجور کی گٹھلی کا گڑھا۔ مراد یہ کہ وہ گٹھلی جیسی حقیر شے کا مالک نہیں۔
❁ الْمِنَّةُ تَهْدِمُ الصنيعة: احسان جتانا نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔

❁ مَنْعُ الجميعِ أَرْضَى الجميع: کسی کو بھی نہ دینا سب کو راضی رکھنا ہے۔ (کیونکہ کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا وجہ شکایت بن جاتا ہے کسی کو بھی نہ دو گے تو سب راضی رہیں گے۔ یہ تمہارے لئے حجت ہوگی جس کی بناء پر تم معذور سمجھے جاؤ گے۔
❁ أَمْنَعُ مِنْ أَنْفِ الْأَسَدِ: شیر کی ناک سے زیادہ محفوظ۔
❁ أَمْنَعُ مِنْ عُقَابِ الجوّ: فضا کے عقاب سے زیادہ محفوظ۔
❁ أَمْنَعُ مِن لِهاةِ الليث: شیر کے تالو سے زیادہ محفوظ۔
❁ كُلُّ مَمْنُوعٍ مَتْبُوعٌ: ہر ممنوع چیز طلب کی جاتی ہے۔ یعنی جو چیز دستیاب نہ ہو لوگ اسی کو ڈھونڈتے ہیں۔
❁ إِذَا تَمَنَّيْتَ فَاسْتَكْثِرْ: جب تو تمنا کرے تو بہت زیادہ کیا کر۔
❁ رُبَّ أُمْنِيَّةٍ جَلَبَتْ مَنِيَّةً: بہت سی تمنائیں موت لے آتی ہیں۔
❁ الْمَنِيَّةُ وَلا الدَّنِيَّةُ: موت نہ کہ ذلت۔ یعنی میں عار کے مقابلہ میں موت کو ترجیح دوں گا۔ اسی مفہوم کے حامل یہ حکیمانہ اقوال بھی ہیں۔ المنايا ولا الدنايا اور النار ولا العار۔
❁ تَمُوتُ الْحُرَّةُ وَلا تَأْكُلُ بِثَدْيَيْهَا: شریف عورت مرجاتی ہے مگر اپنے پستانوں کے ذریعے سے نہیں کھاتی۔ یعنی اجرت پر کسی بچہ کو دودھ نہیں پلاتی۔ ضرورت کے باوجود شرافت کی پاسداری کرنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔
❁ الْمَوْتُ أَهْوَنُ مَابَعْدَهُ وَأَشَدُّ مَاقَبْلَهُ: موت اپنے بعد کی حالت سے آسان تر اور اپنے سے پہلی حالت سے شدید تر ہے۔
❁ هَذَا الْمَيْتُ لَايُسَاوِيْ هَذَا الْبُكَاء: یہ مرنے والا اتنے رونے کا مستحق نہیں۔
❁ مَالُ تَجْلِبُهُ الرِّيَاحُ تَأْخُذُهُ الزَّوَابِعُ: جس مال کو ہوائیں لے کر آئیں اسے آندھیاں گرفت میں لے لیتی ہیں۔
❁ مَاءٌ وَلا كَصَدَّاء: پانی تو ہے مگر صداء جیسا نہیں۔ (جو عربوں کے ہاں بہترین پانی سمجھا جاتا تھا) ایک کی دوسرے پر برتری تسلیم کرنے کے بارے میں یہ مثل بیان کی جاتی ہے۔
❁ يَامَاءُ لَوْ بِغَيْرِكَ غَصِصْتُ: اے پانی! کاش تیرے سوا کسی اور چیز سے مجھے پھندا لگتا۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جسے مصیبت ایسی جگہ سے آئے جہاں وہ نجات اور امداد کی توقع رکھتا تھا۔

ن

❁ أَنْأَى من الكوكب: ستارہ سے بھی زیادہ دور۔
❁ لَايُنْبِتُ البَقْلَةَ إِلَّا الحَقْلَةُ: ساگ کو کھیت ہی اگاتا ہے۔ یعنی گھٹیا بات گھٹیا آدمی کے منہ سے ہی نکلا کرتی ہے۔
❁ نَبْحُ الكِلابِ لَايَضُرُّ بِالسحاب: کتوں کے بھونکنے سے بادل کا کچھ نہیں بگڑتا ہے۔
❁ أَنْجَزَ حُرٌّ مَاوَعَدَ: شریف نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ حرث بن عمرو

کندی کا قول ہے جو اس نے صخر بن نہشل سے کہا تھا جسے اس نے ایک ایسی جگہ کا پتہ اس شرط پر بتایا تھا کہ وہاں سے جو لوٹ کا مال وہ حاصل کرے گا اسے اس کا پانچواں حصہ دے گا۔ صخر نے یہ شرط قبول کی اور وعدہ کر لیا۔ جب صخر اس لوٹ سے کامیاب واپس آیا تو حارث نے مذکورہ بالا قول کہا تھا۔ مراد وعدہ پورا کرنے کی ترغیب دلانا ہے۔

❁ نَاجِزًا بِنَاجِزٍ: نقدا لنقد۔ یَدًا بِیَدٍ بھی اسی مفہوم کا حامل ہے۔ نَاجِزًا سے پہلے ابیعك کا لفظ مقدر سمجھا جانے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ناجزٌ بناجیزٍ بھی مروی ہے۔

❁ دُوْنَهُ النَّجْمُ: اس سے نیچے تو ستارہ ہی ہے۔ یہاں نجم سے مراد عام ستارہ بھی ہو سکتا ہے اور ثریا بھی۔

❁ مَنْ نجابرأسِهِ فقد رَبِحَ: جو اپنا سر بچا لے گیا، نفع میں رہا۔ یہ ایک شاعر کے قول کا حصہ ہے۔ شاعر کہتا ہے:

اَللَّيْلُ دَاجٍ وَالْكِبَاشُ تَنْتَطِحُ
نِطَاحَ اُسْدٍ مَا اَرَاهَا تصطلح
فَمَنْ نَجَا بِرَأْسِهِ فَقَدْ رَبِحَ

(رات اندھیری ہے اور مینڈھے سینگ مارتے ہیں۔ ان کی ٹکریں شیروں کی ٹکروں جیسی ہیں مجھے وہ صلح کرتے نظر نہیں آتے۔ لہٰذا جو اپنا سر بچا لے جائے وہ فائدہ میں رہے گا۔ یہ ضرب المثل اسی قسم کی صورت حال کے متعلق ہے۔

❁ مَا اَنْتِ نَجِيَّةٌ وَلَا سَبِيَّةٌ: نہ تو تو نجات یافتہ ہے اور نہ قیدی۔

❁ نَحَتَ اَثْلَتَهُ: اس نے اس کے اصل وحسب کو چھیل ڈالا۔ یعنی اس کی قلعی کھول دی۔ اثلة: جھاؤ کا درخت۔ یہاں مراد اصل وحسب ہے۔

❁ النَّدَم على السكوت خير من النَّدَم على القول: خاموشی پر ندامت بولنے پر ندامت سے بہتر ہے۔

❁ اَنْدَمُ مِنَ الْكُسَعِيِّ: کسعی سے زیادہ نادم۔ کسعی ایک وادی میں اپنے اونٹ چرانے کے لئے گیا جہاں ایک ہموار چٹان پر شوحط کا پودا اگا ہوا تھا جس کی لکڑی سے تیر کمان بنائے جاتے ہیں۔ کسعی نے اپنے مشکیزہ سے پودے کو پانی دیا اور ایک سال تک اس کی آبیاری کرتا رہا۔ جب پودا بڑھ کر درخت بن گیا تو کسعی نے کاٹ کر کمان اور پانچ تیر بنائے۔ اور گورخر کے شکار کے لئے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب گورخروں کا گلہ پانی پینے کے لئے آیا تو کسعی نے تیر چلایا جو ایک گورخر کے پار نکل کر ایک چٹان سے ٹکرایا جس سے چنگاریاں نکلیں۔ کسعی سمجھا تیر خطا گیا۔ اس طرح اس نے پانچ تیر چلائے اور ہر تیر کو سمجھتا رہا کہ خطا گیا اور غصہ میں اپنی کمان توڑ ڈالی۔ صبح کو دیکھا تو پانچوں تیر خون آلود ملے اور پانچ گورخر شکار ہوئے پڑے تھے۔ اس نے ندامت اور افسوس سے اپنی انگلیاں کاٹیں اور یہ اشعار پڑھے۔

ندمت ندامة لو ان نفسی
تطاوعنی اِذًا لقتلت نفسی
تبیَّنَ لی سفاه الرأی منی
لَعَمْرُ اللّٰهِ حِيْنَ كَسَرْتُ قَوْسِي
وقد كانت بمنزلة المفدى
لَدَيَّ وَعِنْدَ صِبْيَانِي وَعِرْسِي
فلم ملك غداة رايت حَوْلِي
حمير الوحش أَن ضَرَّجت خَمْسِي
كلّ النِدَاءِ إِذَا نَادَيْتُ يَخْذُلُنِي
الا النِدَاءَ إِذَا نَادَيْتُ يَامَالِي

(مجھے ایسی ندامت ہوئی کہ اگر میرا نفس میری بات مانتا تو میں خودکشی کر لیتا۔ جب میں نے اپنی کمان توڑ ڈالی تو۔ خدائے لم یزل کی قسم مجھ پر اپنی رائے کی غلطی واضح ہوگئی۔ کمان مجھے میرے بچوں اور بیوی کے لئے محبوب کا درجہ رکھتی تھی صبح سویرے جب میں نے اپنے اردگرد پانچ گورخر پڑے دیکھے تو میں اپنی پانچ انگلیوں کو خون آلود کرنے سے خود کو نہ روک سکا۔ ہر آواز جو میں دیتا ہوں مجھے رسوا کرتی ہے۔ بجز اس آواز کے کہ میں کہوں یامالی)

❁ النزائعَ لاالقرائبَ: دور کی عورتوں سے نکاح کرو، قریب عورتوں سے نہیں۔ النزائع نزيعة کی جمع ہے جس کا معنی اجنبی عورت ہے جبکہ القرائب قریبة کی جمع ہے جس کا معنی رشتہ دار (عورت) ہے۔ نزائع و قرائب فعل تزوجوا کی وجہ سے محذوف ہیں یعنی دراصل یہ تزوجوا النزائع ولا تزوجوا القرائب کے معنی میں ہے۔

❁ نزلْتَ مِنْهُ بوادٍ غيرِ ذِيْ زَرْعٍ: تو اس کے ہاں ایسی وادی میں اترا ہے جہاں کھیت نہیں ہیں۔ مراد کنجوس کے پاس اترا ہے جس سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

❁ إذا نزابِكَ الشرُّ فاقعُدْ: برائی کی طرف جلدی جانے سے پرہیز کرو خواہ اس پر مجبور ہو جائے۔

❁ لَيْسَ عَلَيْكَ نَسْجُهُ فَاسْحَبْ وَجُرَّ: اس کا بننا تیرے ذمے نہیں لہٰذا کھینچ اور گھسیٹ۔ چونکہ تو نے اس میں کوئی محنت ومشقت نہیں کی اس لئے تو اس کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ مثال اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جو اس چیز کو ضائع کردے جس کو کمانے اور حاصل کرنے میں اس نے کوئی دوڑ دھوپ نہ کی ہو۔

❁ إِنَّهُ نسيجُ وَحْدِه: اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یعنی یکتا ومنفرد ہے۔ بے نظیر ہے۔

❁ إِنَّ النساءَ حَبَائِلُ الشَّيْطان: عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ الحبال: شکار کو پھانسنے کے لئے لگائے ہوئے جال۔ جمع کا صیغہ ہے واحد حبالة

❁ إِنَّ النساءَ شقائقُ الأَقْوَامِ: عورتیں مردوں کا نصف حصہ ہیں۔ اس مثال کا معنی یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی مانند ہیں، لہٰذا وہ مساوی حقوق کی مالک ہیں۔ یہاں اقوام سے مراد صرف مرد ہیں۔

❁ النشيدُ مَعَ المَسَرَّة: شعرخوانی خوشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ مثل

ایسی چیز کے متعلق ہے جو بے وقت طلب کی جائے۔ یعنی بے وقت کی راگنی۔ گانا اس وقت گایا جاتا ہے جب طبیعت خوش ہو۔ یہ بات شنفری نے اس وقت کہی تھی جب بنو سلامان نے اس کو قید کر لیا اور قتل کرنے سے پہلے شعر سنانے کی فرمائش کی تھی۔

❁ اَنْشَطُ مِنْ ظَبْيٍ مُقْمِرٍ: چاندنی رات والے ہرن سے زیادہ خوش۔ کیونکہ وہ چاندکی روشنی میں خوش ہو کر کھیلتا ہے۔

❁ اِذَا نُصِرَ الرَّأْیُ بَطَلَ الْهَوٰی: عقل کی امداد حاصل ہو تو خواہش نفس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مثل عقل کی اتباع کے بارے میں ہے۔

❁ نُصْرَةُ الْحَقِّ شَرَفٌ: حق کی مدد کرنا مایہ ناز ہے۔

❁ لَوْ اَنْصَفَ النَّاسُ اِسْتَرَاحَ الْقَاضِیْ: اگر لوگ انصاف سے کام لیتے تو منصف کو آرام مل جاتا۔

❁ لَایَنْتَصِفُ حَلِیْمٌ مِنْ جَهُوْلٍ: بردبار کا انتقام جاہل سے نہیں لیا جاتا۔ جواب جاہلاں باشد خموشی۔ یہ مثل اس جاہل کے بارے میں ہے جو عقلمند پر غالب ہو جائے اور عقلمند اسے گالیاں دینے سے قاصر رہے۔

❁ نِصْفُ الْعَقْلِ مُدَارَاةُ النَّاسِ: ملنساری آدھی عقل ہے۔

❁ اَنْضَجَ اَخُوْكَ ثُمَّ رَمَّدَ: تیرے بھائی نے پکایا پھر راکھ میں ڈال دیا۔ یعنی کام اچھا کر کے خراب کر دیا۔ اصل یہ ہے کہ آدمی گوشت پکائے پھر اسے راکھ میں پھینک دے اور یوں اس کا ستیاناس کر ڈالے۔

❁ عِنْدَ النِّطَاحِ يُغْلَبُ الْكَبْشُ الْاَجَمُّ: سینگ ٹکرانے پر بے سینگ مینڈھا مغلوب ہو جاتا ہے۔ الاجم: جس کا سینگ نہ ہو۔ اس شخص کی مثال ہے جو ضروری تیاری کے بغیر کوئی کام کرنے پر ناکامی کا سامنا کرے۔

❁ اَنْطَقُ مِنْ سَحْبَانَ: سحبان سے زیادہ خطیب۔

❁ مَنْ نَظَرَ فِی الْعَوَاقِبِ سَلِمَ مِنَ النَّوَائِبِ: نتائج پر نظر رکھنے والا مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔

❁ مَنْ صَارَ نَعْجَةً اَكَلَهُ الذِّئْبُ: جو بھی بھیڑ بنے بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔

❁ رُبَّ نَعْلٍ شَرٌّ مِنَ الْحَفَاءِ: بہت سے جوتے ننگے پاؤں ہونے سے بدتر ہوتے ہیں۔

❁ نَعِمَ كَلْبٌ فِیْ بُؤْسِ اَهْلِهٖ: کتا اپنے مالک کی تنگی اور فقر سے موٹا تازہ ہو گیا۔ اس ضرب المثل کی اصل یہ ہے کہ کچھ عربوں کے اونٹ اور بکریاں بیماری سے مرنے لگے اور ان کے کتے ان کا گوشت کھا کھا کر موٹے ہو گئے۔

❁ مِثْلُ النَّعَامَةِ لَا طَيْرٌ وَلَا جَمَلٌ: شتر مرغ جیسا، جو نہ پرندہ ہے اور نہ اونٹ۔ اس شخص کی مثل ہے جسے اچھا یا برا قرار نہ دیا جا سکے۔

❁ نَفَخْتَ فِیْ غَيْرِ ضَرَمٍ: تو نے پھونکیں ماریں مگر جلانے کی لکڑیوں میں نہیں (کہ آگ بھڑکتی) یہ مثل بے موقع کوششیں صرف کرنے والے کے متعلق بولی جاتی ہے۔ الضرم کا معنی آگ یا جلد جل اٹھنے والی لکڑیاں ہیں۔ اور نفخ فی غیر ضرم ایسی جگہ پھونکیں مارنا ہے جہاں آگ ہی نہ ہو۔

❁ مَا بِهَا نَافِخُ ضَرَمَةٍ: گھر میں کوئی نہیں۔ ما بہا سے مراد مالدار ہے۔ الضرمۃ کوئی چیز جس میں آگ جلائی جائے۔

❁ اَنْفَذُ مِنَ السَّهْمِ: تیر سے زیادہ سراخ کرنے والا۔

❁ اَنْفَرُ مِنْ ظَبْيٍ: ہرن سے زیادہ بدکنے والا۔

❁ اَنْفَرُ مِنْ نَعَامَةٍ: شتر مرغ سے زیادہ بدکنے والا۔

❁ اَنْفَرُ مِنْ بَعِيْرٍ اَزَبَّ: گھنے بالوں والے اونٹ سے زیادہ بدکنے والا۔ الازب: بہت بالوں والا۔ دوسرے لفظوں میں اونٹ بالوں کی لمبائی کو اپنی آنکھوں پر دیکھ کر اسے اور کوئی وجود سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور بدکا رہتا ہے۔

❁ نَفْسُ عِصَامٍ سَوَّدَتْ عِصَامًا: عصام کے نفس نے عصام کو سردار بنا دیا۔ مراد وہ اپنے زور بازو سے سردار بنا۔ عصام بادشاہ نعمان کا دربان تھا۔ پھر بادشاہ بن گیا۔ کسی نے اس کے متعلق یہ شعر کہا:

نَفْسُ عِصَامٍ سَوَّدَتْ عِصَامًا

وَعَلَّمَتْهُ الْكَرَّ وَالْاِقْدَامَا

وَصَيَّرَتْهُ مَلِكًا هُمَامًا

(عصام کے نفس نے عصام کو سردار بنا دیا اور اس کو حملہ کرنا اور پیش قدمی کرنا سکھائی اور اسے باہمت بادشاہ بنا دیا) عصام ان لوگوں کے لئے ضرب المثل بن گیا جو شرف و بزرگی اپنی ذاتی کوشش سے حاصل کرتے ہیں وراثت میں نہیں پاتے۔ اس کے مقابلہ میں عظامی وہ ہوتا ہے جسے شرف و بزرگی اپنے اسلاف سے ملے۔ عظامی عظام سے نسبت ہے اور عظام سے مراد عظام اجداد ہے۔ چنانچہ اپنے آپ پر فخر کرنے والا عصامی اور آباؤ اجداد پر فخر کرنے والا عظامی کہلاتا ہے۔

❁ اَلنَّفْسُ مُوْلَعَةٌ بِحُبِّ الْعَاجِلِ: نفس جلد حاصل ہونے والی چیز سے محبت کا شیدا ہے۔ یہ جریر کے شعر کا دوسرا مصرع ہے۔ پہلا مصرع یوں ہے:-

اِنِّیْ لَاَرْجُوْ مِنْكَ شَيْئًا عَاجِلًا: میں تجھ سے جلد ملنے والی چیز کا امیدوار ہوں۔

❁ اَلنَّفْسُ تَعْلَمُ مَنْ اَخُوْهَا النَّافِعُ: نفس جانتا ہے کہ اس کا منفعت بخش بھائی کون ہے۔ اس شخص کے بارے میں ہے جس کی ضرورت پڑنے پر تعریف یا مذمت کی جائے۔ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ انسان جانتا ہے کہ کون سود مند ہے اور کون نقصان رساں۔

❁ مَنْ جَعَلَ نَفْسَهٗ عَظْمًا اَكَلَتْهُ الْكِلَابُ: جو شخص خود کو ہڈی بنا لے اسے کتے کھا جاتے ہیں۔

❁ مَا يَنْفَعُ الْكَبِدَ يَضُرُّ الطِّحَالَ: جو چیز جگر کے لئے مفید ہو وہ تلی کے لئے مضر ہوتی ہے۔

❁ لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ: احتیاط تقدیر کے مقابلے میں چنداں مفید

نہیں۔

❁ مَاتَنفَعُ الشَّعْفَةُ فِي الْوَادِي الرُّغُبِ: ہلکی پھلکی بارش اس وادی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی جو اتنی کشادہ ہو کہ صرف ہر چیز کو بہالے جانے والا سیلاب ہی اسے بھر سکتا ہو۔ عطاء اس قدر کم کہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔

❁ لَا يَنفَعُكَ مِنْ جَارِ سُوءٍ تَوَقٍّ: برے پڑوسی سے بچنا بے فائدہ ہے۔ یعنی تو اس سے بچ نہیں سکتا۔

❁ وَمَا نَفعُ السُّيُوفِ بِلَا رِجَالٍ: مردوں کے بغیر تلواروں کا کیا فائدہ۔

❁ النَّقْدُ عِنْدَ الحافرة: نقد سبقت کے وقت ہوتا ہے (کیونکہ گھوڑا سبقت لے جائے تو اس کا مالک جیتی ہوئی رقم لیتا ہے۔ الحافرة: وہ زمین جو گھوڑے نے اپنے پاؤں سے کھودی ہو۔ یہاں حافرة محفورة کے معنی میں ہے۔ بعض کے نزدیک معنی النقد عند حافر الفرس ہے۔ یعنی جب تم کوئی جانور خریدو تو بغیر اس کی قیمت ادا کئے وہاں سے نہ ٹلو۔ یہ مثل ضرورت جلدی پوری کر لینے کے بارے میں ہے۔

❁ النَّقْدُ صَابُونُ الْقُلُوبِ: نقد دلوں کا صابن ہے۔ یعنی نقد (ادائیگی سے دل صاف رہتے ہیں وسوسے پیدا نہیں ہوتے)

❁ مَانَقَصَ مِنْ مَالِكَ مَازَادَ فِي عَقْلِكَ: جس مال نے تیری عقل میں اضافہ کیا وہ کم نہیں ہوتا (ضائع نہیں ہوتا)

❁ مَنْ نَقَلَ إِلَيْكَ فَقَدْ نَقَلَ عَنْكَ: جو تمہیں دوسروں کی باتیں بتائے وہ تمہاری باتیں بھی دوسروں کو بتا رہا ہے گا۔

❁ أَنْقَلُ مِنْ فَيْءٍ: سایہ سے زیادہ منتقل ہونے والا۔

❁ أَنْقَى مِنَ الدَّمْعَةِ: آنسو سے زیادہ شفاف۔

❁ أَنْقَى مِنْ مِرآةِ الغريبة: اجنبی عورت کے آئینہ سے زیادہ صاف ہے۔ (الغريبة: وہ عورت جو غیر لوگوں میں بیاہی ہو۔ وہ اپنا آئینہ ہمیشہ اجلا رکھتی ہے۔ تاکہ اس کے چہرہ کی کوئی چیز مخفی نہ رہے)

❁ أَنْقَى مِنَ الرَّاحَةِ: ہتھیلی سے زیادہ صاف۔ مثلاً کہا جاتا ہے: تركته على أنقى من الراحة: میں نے اس کو ہتھیلی سے زیادہ صاف حالت میں چھوڑا۔ اس کے پاس کچھ نہ تھا جس طرح ہتھیلی پر بال نہیں ہوتے۔

❁ أَنْكَرُ مِنْ شَيْءٍ: چیز سے زیادہ غیر معین۔ چیز سب سے زیادہ غیر معین ہے کیونکہ اس کا اطلاق تمام موجودات پر ہوتا ہے۔

❁ أَنَمُّ مِنَ التُّرَابِ: مٹی سے زیادہ چغلخور۔ (یہ اس کے بارے میں اس لئے کہا گیا ہے کہ مٹی پر نشانات قائم رہتے ہیں۔ اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کسی کے پاؤں کے نشان ہیں)

❁ أَنَمُّ مِنَ الصُّبْحِ: صبح سے زیادہ راز افشا کرنے والا۔ (کیونکہ صبح ہر چیز کو بے نقاب کر دیتی اور کچھ نہیں چھپاتی)

❁ مَنْ نَهَشَتْهُ الحَيَّةُ حَذِرَ الرَّسَنَ: سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ (دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے)

❁ هَلْ يَنْهَضُ البَازِي بِلَا جَنَاحٍ: کیا شکرا بغیر بازوؤں کے اڑ سکتا ہے؟ تعاون کی ترغیب کے بارے میں نیز ایسے مدعی علم کے لئے کہا جاتا ہے جس کے پاس اس کی صلاحیت ہی نہ ہو)

❁ لَاتَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ: لوگوں کو کسی ایسی عادت سے منع مت کرو جو تم میں بھی پائی جاتی ہو۔ (خود را فصیحت دیگراں را نصیحت)

❁ النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ: لوگوں کو اپنے اعمال کی سزا ملتی ہے۔

❁ النَّاسُ أَتْبَاعُ مَنْ غَلَبَ: لوگ غالب آنے والے کے متبع ہوتے ہیں۔

❁ النَّاسُ أَعْدَاءُ مَاجَهِلُوا: لوگ ہر اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔

❁ النَّاسُ عَبِيدُ الإِحْسَانِ: لوگ احسان کے غلام ہیں۔

❁ لِكُلِّ أُنَاسٍ في بعيرهم خبر: سب لوگ اپنے اپنے اونٹوں کی خبر رکھتے ہیں (ہر قوم اپنے معاملات کو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ جانتی ہے)

❁ إِسْتَنْوَقَ الجَمَلُ: اونٹ اونٹنی کے مشابہ ہو گیا (اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے)

❁ لَانَاقَتِي فِي هٰذَا وَلَاجَمَلِي: اس معاملہ میں نہ تو میری اونٹنی ہے نہ اونٹ (ظلم اور گناہ سے بری الذمہ ہوں)

❁ نَامَ عِصَامٌ سَاعَةَ الرَّحِيلِ: کوچ کے وقت عصام سو گیا (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بوقت ضرورت غائب ہو جائے)

❁ النَّوَى أَوَّلُ الشَّجَرَةِ: گٹھلی درخت کا پہلا حصہ ہے۔

ہ

❁ يَهُبُّ مَعَ كُلِّ رِيحٍ: (ہر ایک کی رائے کی اتباع کرنے والا (الامعۃ) ہر ہوا کے ہمراہ چل پڑتا ہے۔

❁ أَهْدَى مِنَ القَطَا: قطا سے زیادہ ہدایت یافتہ (یہ مثل قطاة جمع قطا: بھٹ تیتر کے بارے میں ہے۔ جسے بے راستہ و بے نشان بیابان میں بھی اپنا راستہ کبھی نہیں بھولتا)

❁ أَهْدَى من اليَدِ إِلَى الْفَمِ: منہ کی طرف بڑھنے والے ہاتھ سے بھی زیادہ رہنما۔

❁ لَاتَهْرِفْ بِمَا لَا تَعْرِفُ: جس کو نہ جانتے ہو اس کی تعریف مت کرو۔ (الهَرْف۔ تعریف میں مبالغہ سے کام لینا۔ اچھی طرح واقفیت کرنے سے پہلے کسی چیز کی تعریف میں حدود سے تجاوز کرنے پر بولا جاتا ہے۔

❁ هَرِّقْ عَلَى جَمْرِكَ: اپنی چنگاری پر پانی ڈالو۔ (هَرَّقَ الماءَ: پانی ڈالنا۔ غضبناک شخص کے لئے کہا جاتا ہے۔ اپنا غصہ ٹھنڈا کر)

❁ إِذَا هَلَكَ عَيْرٌ فَعَيْرٌ فِي الرِّبَاطِ: جب کوئی گدھا ہلاک ہو جائے (تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں) کیونکہ ایسا ہی ایک گدھا رسی میں (بندھا) موجود ہے۔ (الرباط اس رسی کو کہتے ہیں جس سے گھوڑوں

یا اونٹوں کو باندھا جاتا ہے۔ ہاتھ سے نکلنے والی چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہئے اگر اس کا متبادل مل جاتا ہو۔

❁ إِمَّا هُلْكٌ وإِمَّا مُلْكٌ: یا ہلاکت یا ملک (تخت یا تختہ)

❁ أَهْلَكُ مِنْ تُرَّهَاتِ السَّبَاسِبِ: صحراء کے شاخ در شاخ راستوں سے زیادہ ہلاکت خیز (کیونکہ ایسے راستوں کی بھل بھلیوں میں پھنس کر راہ نورد ہلاک ہو جاتا ہے۔ التُرَّهات: کسی بڑے راستے سے نکلنے والے شاخ در شاخ راستے۔ سباسب۔ لق ودق صحراء)

❁ كُلُّ هَمٍّ إِلَى فَرَجٍ: ہر غم کشادگی کی طرف لے جاتا ہے۔) مصیبت کے بعد راحت ہے)

❁ هَانَ عَلَى الْأَمْلَسِ مَالَاقَى الدَّبِرُ: صاف پیٹھ والے اونٹ پر وہ چیز آسان ہے جس سے زخمی پیٹھ والے کو واسطہ پڑے۔ (الدبر: زخمی پیٹھ والا جانور۔ الأَمْلَس سے یہاں صاف پیٹھ والا (اونٹ) مراد ہے۔ مصیبت زدہ کی تکلیفوں کا احساس کرنا چاہئے۔)

❁ مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَهُوَ على غيره أَهْوَنُ: اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے والا دوسروں کے لئے بھی ہلکا ہوگا۔ (اپنی عزت اپنے ہاتھ)

❁ مَنْ أَهَانَ مَالَهُ أَكْرَمَ نَفْسَهُ: اپنے مال کو حقیر سمجھنے والا خود کو معزز بنا لیتا ہے۔ (جو مال خرچ کرے گا اس کو عزت حاصل ہوگی)

❁ هَوِّنْ عَلَيْكَ وِلَاتُوْلَعْ بِاشْفَاقٍ: کوئی پرواہ نہ کر اور نہ کسی سے خوفزدہ ہو۔ دنیا سے جو جاتا ہے جانے دے کیونکہ بالآخر اسے چھوڑنا پڑے گا۔

❁ أَهْوَنُ مِنَ النَّبَاحِ عَلَى السَّحَابِ: بادلوں پر بھونکنے سے زیادہ بے قدر (کیونکہ صحرائی کتا کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتا ہے۔ بارش میں بھیگنے پر بادل پر بھونکنے لگتا ہے۔ اور جب بھی بادل آئیں بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔

❁ أَهْوَنُ مِنْ قُعَيْسٍ عَلَى عَمَّتِهِ: قعیس سے بھی زیادہ بے قدر جتنا وہ اپنی پھوپھی کے نزدیک تھا۔ قعیس کوفہ کا رہائشی تھا موسم سرما میں اپنی پھوپھی سے ملنے آیا جس کا مکان تنگ تھا۔ پھوپھی نے کتا مکان میں داخل کر لیا اور قعیس کو باہر ہی رہنے دیا۔ چنانچہ وہ سردی سے مرگیا۔

❁ مَا أَهْوَنَ الْحَرْبَ على النَّظَّارَةِ: تماشائیوں کے لئے جنگ کتنی آسان ہے۔ (کیونکہ وہ لڑائی دیکھ رہے ہوتے ہیں لڑائی میں حصہ نہیں لیتے)

❁ إِنَّ الْهَوَانَ لِلَّئِيمِ مَرْأَمَةٌ: کمینے کے لئے بے عزتی مہربانی ہے۔ (المرأمة: مہربانی، رافت، کمینے کو بے عزت کرو تو وہ اسے اپنے لئے مہربانی کا اظہار سمجھتا ہے۔ اگر اس کی عزت کی جائے تو وہ تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا اور اس کے شر و فساد میں اضافہ ہو جائے گا۔

❁ الْهَوَى مِنَ النَّوَى: محبت دوری سے ہوتی ہے۔ (انسان جو کچھ روزانہ دیکھتا ہے اسے حقیر سمجھتا ہے اور اس سے اکتا جاتا ہے)

❁ إِنَّ الْهَوَى شَرِيكُ الْعَمَى: محبت ایک قسم کا اندھا پن ہے۔ (اس جیسا عربوں کا قول ہے حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ: کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا سا بنا دیتی ہے)

❁ إِنَّ الْهَوَى الْهَوَانُ: محبت ذلت کا نام ہے (اس راہ میں ذلتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں)

❁ مَنْ هَابَ خَابَ: جو ڈرا، گیا کام سے۔

❁ مَنْ هَابَ الرِّجَالَ تَهَيَّبُوهُ: جو لوگوں سے ڈرے، لوگ اسے ڈرائیں گے۔

و

❁ لَوْلَا الْوِئَامُ لَهَلَكَ الْأَنَامُ: اگر موافقت نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے (الوئام: موافقت۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور مل جل کر رہنے میں لوگوں کی موافقت نہ ہوتی تو لڑ جھگڑ کر ہلاک ہو جاتے)

❁ وَجَعُ سَاعَةٍ وَلَا كُلِّ سَاعَةٍ: ایک گھڑی کی تکلیف نہ ہر گھڑی کی۔ دم بھر کی تکلیف ہے عمر بھر کی نہیں)

❁ لَمْ أَجِدْ لِشَفْرَةٍ مَحَزًّا: میں نے چھرے کے لئے کاٹنے کی جگہ نہیں پائی (میں نے معاملہ میں کوئی گنجائش نہیں پائی)

❁ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ: برے ہمنشین سے تنہائی بہتر ہے۔

❁ وَحَمَى بِلَاحَبَلٍ: حمل کے بغیر مختلف اشیاء کی خواہش کرنے والی (یہ مثل اس شخص کے بارے میں ہے جو ہر اچھی چیز کا ذکر سن کر اس کی خواہش کرے یا ایسے لالچی شخص کے بارے میں جو بلا ضرورت مانگتا پھرے۔ وَحَمَى: حاملہ عورت جسے مختلف چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے)

❁ دَعْ عَنْكَ بُنَيَّاتِ الطريق: چھوٹے چھوٹے راستے چھوڑ کر واضح راہ اختیار کرو (یعنی ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ کر اصل اور بڑے کام کی طرف توجہ دو)

❁ دَعِ الْعَوْرَاءَ تَخَطَّاكَ: بری چیز کو اپنے آپ سے آگے بڑھ جانے دو۔ (العوراء: بری خصلت، کلمہ بد، تخطاك: تجھ سے تجاوز کرے۔ یہ عربوں کی ایک نہایت حکیمانہ ضرب المثل ہے)

❁ دَعِ الْقَطَايِنَمْ وَشَرًّا يَعْبُرْ: بھٹ تیتر کو سو جانے دو اور شر کو گزر جانے دو (اہم کام پر عمل ہونے دو)

❁ دَعِ اللَّوْمَ إِنَّ اللَّوْمَ عَوْنُ النوائب: ملامت کرنا چھوڑ دو، ملامت کرنا مصائب کا معین و مددگار ہے۔

❁ وَدَّعَ مَالًا مُوْدِعُهُ: مال کو اس کو بطور امانت رکھوانے والے نے چھوڑ دیا۔ (بداعتمادی کے بارے میں ضرب المثل ہے، کیونکہ [illegible]

شخص اپنا مال کسی اور شخص کے پاس بطور امانت رکھتا ہے تو وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی واپسی کی امید نہیں رہتی۔

❁ بِكُلِّ وَادٍ بَنُو سَعْدٍ: ہر وادی میں بنو سعد ہی ہیں۔ (بنو سعد کے ایک شخص اضبط بن قُریع نے اپنی قوم کی ناپسندیدہ باتیں دیکھ کر ان سے علیحدگی اختیار کی اور جب دوسروں میں بھی ویسی برائیاں دیکھیں تو اپنی قوم میں واپس آ گیا اور کہا کہ ہر وادی میں بنو سعد ہی بستے ہیں۔ اور اس کا یہ قول ضرب المثل بن گیا۔ جو اس شخص کے بارے میں بیان کی جاتی ہے جسے ویسے ہی افراد سے سابقہ پڑے جیسے لوگوں کو وہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔

❁ بِكُلِّ وَادٍ أَثَرٌ مِنْ ثَعْلَبَةَ: ہر وادی میں ثعلبہ کا اثر پایا جاتا ہے۔ (یہ قول بنی ثعلبہ کے ایک شخص کا ہے جو اپنی قوم میں ناپسندہ خصلتیں دیکھ کر دوسروں کے پاس چلا گیا تھا لیکن اس میں بھی ویسی ہی بری خصلتیں پائیں)

❁ وَرَاءَكَ أَوْسَعُ لَكَ: پیچھے رہ تو اپنے لئے زیادہ گنجائش پائے گا۔

❁ مَاوَرَائَكَ أَوْ وَرَائَكِ يَاعِصَام: اے عصام! تیرے پیچھے کیا ہے (آنے والے سے جہاں سے آیا ہے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے بارے میں ضرب المثل ہے۔ وراء لک۔ ک کی زبر کے ساتھ ہو تو مفہوم یہ ہے کہ عصام نے جو بادشاہ نعمان کا دربان تھا بیمار بادشاہ کی عیادت کے لئے آنے والے نابغہ شاعر کو اس کے پاس جانے سے روک دیا تھا۔ نابغہ نے اپنے قصیدہ میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

فانی لاالومک من دخول

ولکن ماورائکَ یا عصام؟

(عصام! میں تجھے داخل ہونے کے بارے میں ملامت تو نہیں کرتا لیکن یہ تو بتا دے کہ تیرے پیچھے کیا حال ہے؟ یعنی نعمان کا کیا حال ہے؟) ماوراءِ کِ کی ک کی زیر کے ساتھ بھی مروی ہے۔ اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ کندہ کے بادشاہ حارث بن عمرو نے کندہ کی عصام نامی ایک عورت کو عوف شیبانی کے پاس اس کی بیٹی کے لئے شادی کا پیغام دے کر بھیجا، کیونکہ اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ بڑی خوبصورت اور عقلمند ہے۔ جب وہ حارث کے پاس واپس آئی تو اس نے دور ہی سے پوچھا: ماوراءِ کِ یا عصام۔ عصام ادھر کی کیا خبر ہے؟

❁ أَوْرَدْتَ مَالَمْ تُصْدِرْ: تو نے وہ چیز درآمد کی ہے جو تو نے برآمد نہیں کی (یعنی تو نے ایسی بری بات کہہ دی جسے تو دہرا نہیں سکتا۔ یا تو نے ایسا برا کام کیا ہے جس کی تو تلافی نہیں کر سکتا۔

❁ حَتّٰى يَرِدَ الضَّبُّ: یہاں تک کہ گوہ پانی پیئے (یعنی کبھی نہیں، کیونکہ گوہ پانی نہیں پیتی)

❁ مَاهٰكَذَا تُورَدُ سَعْدُ الْإِبِلُ: اے سعد! اونٹوں کو اس طرح پانی نہیں پلایا جاتا۔ (یہ مالک بن زید مناۃ بن تمیم نے اپنے بھائی سعد کو بے پروائی سے اونٹوں کو پانی پلاتے دیکھ کر کہی تھی۔ مطلب یہ کہ معاملات کو اس برے طریقے سے سرانجام نہیں دیا جاتا)

❁ هٰذَا وَلَمَّا تَرِدْ تِهَامَةَ: یہ گھبراہٹ حالانکہ تم ابھی مکہ نہیں پہنچے۔ (یعنی معاملہ کے پیش آنے سے پہلے گھبراہٹ۔ اسی مفہوم کا ایک شعر ہے:

أشوقًا ولمّا يَمْضِ لي غيرُ ليلةٍ

فكيفَ إذا سارا المَطيُّ بنا عشرًا

(اتنا شوق! حالانکہ میری ایک رات بھی نہیں گزری۔ اس وقت کیا حال ہو گا جب سواری ہمیں لئے دس راتیں چلتی رہے گی)

❁ مَوْرِدُ الْجَهْلِ وَبِيُّ الْمَنْهَلِ: جہالت کا گھاٹ ناخوشگوار پانی پینے کی جگہ ہے۔ (جہالت کو کام میں لانے سے باز رہنا چاہئے)

❁ وَاسِطَةُ الْقِلَادَةِ: ہار میں سب سے بڑا دانہ (کسی چیز کے ایک حصہ کے پوری چیز پر تفوق کے بارے میں کہا جاتا ہے)

❁ أَوْسَعْتُهُمْ سَبًّا وَأَوْدُوْا بِالْإِبِلِ: تم نے انہیں گالیاں تو کھل کر دیں مگر وہ اونٹوں کو لے ہی گئے۔ (ایسے شخص کے بارے میں ضرب المثل ہے جو اپنے دشمن کو گالیاں اور دھمکیاں دے لیکن دشمن کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ کعب بن زہیر نے اپنے باپ زہیر سے اس وقت کہا تھا جب حرث ابن ورقاء جو بنی اسد سے تھا حملہ کر کے اس کے اونٹوں اور ان کے چرواہے کو لے گیا۔ زہیر اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ہجو کرتا، انہیں گالیاں اور دھمکیاں دیتا رہ گیا مگر انہوں نے اس کی مطلق پروا نہ کی۔ تب زہیر کے بیٹے کعب نے اس سے مذکورہ بالا مقولہ کہا تھا)

❁ إِتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ: پھٹن جوڑنے والے پر وسیع ہو گئی (یعنی فساد اتنا بڑھ گیا ہے کہ تدارک کا موقع جاتا رہا)

❁ فِيْ سِعَةِ الْأَخْلَاقِ كُنُوْزُ الْأَرْزَاقِ: رزق کے خزانے وسعت اخلاق میں ہیں (خوش اخلاق بھوکا نہیں مرتا)

❁ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ: اپنے نفس کا وصی بن (وصی: جسے کوئی کام سونپا جائے)

❁ إِنَّ الْمُوَصَّيْنَ بَنُوْ سَهْوَان: وہ لوگ جنہیں کسی چیز کی وصیت کی گئی بھولن ہار ہیں (اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو وہ کام کرنا بھول جائے جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ السھوان: بھولنے والا یعنی آدم جنہیں حکم دیا گیا لیکن وہ اس کو بھول گئے۔ گویا مثل کہتی ہے کہ تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ لوگ جنہیں وصیت کی گئی ہے اولاد آدم ہیں)

❁ أَيْنَ يَضَعُ الْمَخْنُوقُ يَدَهُ؟: گلا گھونٹا ہوا اپنا ہاتھ کہاں رکھے؟
❁ ضَعِ الْفَأْسَ فِي الرَّأْسِ: تیشہ کو سر میں رکھ دے (یہ مثل جلدی کا خواہاں ہونے اور کام پورا کرنے کے بارے میں ہے)
❁ وَعْدُ الْكَرِيْمِ دَيْنٌ: سخی کا وعدہ قرض ہے۔
❁ وَعْدٌ بِلَا وَفَاءٍ عَدَاوَةٌ بِلَا سَبَبٍ: وعدہ جو پورا نہ کیا جائے بلاوجہ کی دشمنی کی دعوت دینا ہے۔
❁ الْعِدَةُ عَطِيَّةٌ: وعدہ ایک عطیہ ہے (وعدہ خلافی اسی طرح بری ہے جس طرح عطیہ واپس لے لینا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ وعدہ عطیہ کے مشابہ ہے۔
❁ مَوَاعِيْدُ عُرْقُوْبٍ: عرقوب کے وعدے (عمالیق میں سے ایک شخص عرقوب کے پاس اس کا بھائی سوالی بن کر آیا۔ عرقوب نے اس سے کہا کہ کھجور میں پھول آ جائیں تو وہ تیرے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ وعدہ کھجور پر پھل آنے، پکنے اور خشک ہو کر چھوہارا بن جانے تک ٹلتا رہا۔ آخر الامر عرقوب نے وہ سب چھوہارے اتار کر رکھ لئے اور اپنے بھائی کو کچھ نہ دیا۔ جو حسب وعدہ بار بار آتا رہا تھا۔ عرقوب کا یہ عمل وعدہ خلافی میں ضرب المثل بن گیا۔
❁ وَافَقَ شَنٌّ طَبَقَةً أَوْ طَبَقَةَ: چمڑے کا برتن اپنے ڈھکن کے مطابق ہو گیا یا شن طبقہ کے موافق ہو گیا (یہ مثل دو چیز کی موافقت و مطابقت کے لئے بولی جاتی ہے۔ اصمعی کا کہنا ہے: شن چمڑے کے اس برتن کو کہا جاتا ہے جو سکڑ گیا ہو اور اس کے لئے ایسا ڈھکن بنایا جائے جو اس کو فٹ آئے۔ بعض کے نزدیک شن عربوں کا ایک چالاک اور ہوشیار شخص تھا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اپنے جیسی عقلمند عورت سے شادی کرے گا۔ چنانچہ وہ اس قسم کی لڑکی کی تلاش میں شہر شہر گھومنے لگا۔ سفر کے دوران ایک شخص اس کا رفیق سفر ہوا جو اپنے وطن جا رہا تھا۔ دونوں اپنی سواری پر جا رہے تھے۔ شن نے اس سے کہا: تو مجھے اٹھا کر چلے گا یا میں تجھے اٹھا کر چلوں؟ اس نے شن کو احمق سمجھا۔ شن کا یہ بات کہنے سے مقصد صرف یہ تھا کہ سفر بآسانی طے کرنے کے لئے میں کوئی بات چھیڑوں یا تم کوئی بات کہنا چاہو گے۔ دونوں کو ایک کھلیان نظر آیا۔ شن نے اپنے ساتھی سے پوچھا: کیا یہ کھیتی کھائی جا چکی ہے یا نہیں؟ اس کی مراد یہ تھی کہ کیا یہ کھیتی مر بک گئی اور اس کی قیمت لے کر صرف کی جا چکی ہے۔ پھر ایک جنازہ دیکھ کر شن نے اپنے ساتھ سے پوچھا کہ اس چارپائی پر کوئی زندہ ہے یا مردہ؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مرنے والے کی کوئی اولاد یا وارث ہیں جو اس کا نام زندہ رکھیں گے۔ جب وہ شخص اپنے گھر پہنچا اور شن کے ہمراہ تھا تو اس کی بیٹی نے جس کا نام طبقہ تھا شن کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اپنی بیٹی کو پورے قصہ سے آگاہ کیا اور اسے جاہل قرار دیا۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا: ابا جان یہ شخص تو نہایت عقلمند اور ہوشیار ہے اور اپنے باپ کو بتایا کہ اس کے سوالات کا کیا مطلب تھا۔ اس پر اس شخص نے شن سے اپنی لڑکی نے جو کہا تھا بیان کیا۔ شن نے اس پر لڑکی سے نکاح کا پیغام دیا۔ لڑکی کے باپ نے اپنی لڑکی کی شن سے شادی کر دی۔ شن لڑکی کو لے کر اپنے گھر والوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے لڑکی کو دیکھ کر اس کی ذہانت کا حال معلوم کیا تو کہا شن طبقہ کے موافق ہے۔ اور ان کا یہ قول ضرب المثل بن گیا۔ اس بارے میں اور باتیں بھی کی جاتی ہیں۔
❁ إِنْ لَمْ يَكُنْ وِفَاقٌ فَفِرَاقٌ: موافقت کی عدم موجودگی کی صورت میں جدائی ہی بہتر ہے۔
❁ أَوْفَى مِنَ السَّمَوْأَلِ: سموأل سے زیادہ وفادار۔ (سموأل نے کہا:

اذا الْمَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللُّؤْمِ عِرْضُهُ
فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيْهِ جَمِيْلُ

(جب آدمی کی آبرو کمینگی سے ملوث نہ ہو تو جو چادر بھی وہ پہن لے خوبصورت ہوگی۔ سموأل کی وفاداریوں میں سے ایک یہ ہے کہ امراء القیس بن حجر الکندی نے روم جاتے ہوئے اپنی کچھ زرہیں سموأل کے پاس امانت کے طور پر رکھیں۔ امراء القیس مر گیا تو شام کے بادشاہ نے سموأل پر چڑھائی کر دی۔ سموأل قلعہ میں محصور ہو کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے سموأل کے ایک بیٹے کو قلعہ سے باہر گرفتار کر لیا اور سموأل سے کہا اگر تو نے امراء القیس کی امانت میرے حوالے نہ کی تو میں تیرے بیٹے کو قتل کر دوں گا سموأل نے امانت نہ دی تو بادشاہ نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ سموأل دیکھتا رہا۔ بادشاہ ناکام واپس چلا گیا۔ حج کے موسم میں جب لوگ اکٹھے ہوئے تو سموأل نے وہ زرہیں امراء القیس کے وارثوں کے حوالے کر دیں۔
❁ لاتَقْعَنَّ البحر الا سابحًا: دریا میں اس وقت اترو جب تم کو تیرنا آتا ہو۔ مراد کوئی کام اس صورت میں کرنا چاہئے جس کی صلاحیت رکھتے ہو)
❁ اِتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ اِلَيْهِ: جس کے ساتھ تم نے احسان کیا ہو اس کے شر سے بچتے رہو۔ اس کے ہم معنی ہی قول ہے۔ سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ: اپنے کتے کو موٹا کرو گے تو وہ تمہیں کھا جائے گا)
❁ قَدْ يُتَوَقَّى السَّيْفُ وَهُوَ مُغْمَدٌ: کبھی میان میں بھی تلوار سے خوف کیا جاتا ہے۔
❁ مَنْ اِتَّكَلَ زَادَ غَيْرِهِ طَالَ جُوْعُهُ: جو غیر کے توشے پر بھروسہ کرے گا اس کی بھوک طویل ہوگی۔
❁ لاتَلِدُ الذئبة اِلَّا ذِئْبًا: بھیڑن بھیڑیا ہی جنا کرتی ہے۔
❁ هَلْ تَلِدُ الْحَيَّةُ اِلَّا الْحَيَّةَ: کیا ناگن سانپ کے سوا کسی اور کو جنا کرتی ہے؟ سانپ کا بچہ سپولیا)
❁ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا: برا کام اس کے سپرد کرو جو اچھا کام کرنے کی ذمہ داری لے سکتا ہو یا اپنا بوجھ اس پر ڈالو جس نے تم سے فائدہ اٹھایا ہو۔ عربوں کے نزدیک حار مذموم ہے اور بارد پسندیدہ۔ حار العمل بمعنی مشکل کام اور قار العمل آسان کام کے معنی میں ہے۔

❁ أَوْهَنُ مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ: مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور۔

❁ عِنْدَكَ وَهْيٌ فَارْقَعْهُ: تیرے پاس بھی پھٹا ہوا (کپڑا) ہے لہٰذا پہلے اسے پیوند لگا۔ (تجھ میں بھی عیب ہے دوسروں کے عیب بتانے سے پہلے اپنا عیب دور کر لے۔

❁ وَيْلٌ لِلْحَسُودِ مِنْ حَسَدِهِ: حاسد پر اس کے حسد سے ہی ہلاکت آتی ہے۔

❁ وَيْلٌ لِلرَّأْسِ مِنَ اللِّسَانِ: سر کی ہلاکت کا باعث زبان ہوتی ہے۔ (زبان درازی سے سر پھوٹا کرتے ہیں)

❁ وَيْلٌ لِلشَّجِيِّ مِنَ الْخَلِيِّ: بےغم کے ہاتھوں غمگین مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ (یہ ضرب المثل اس شخص کے لئے بولی جاتی ہے جس کا ساجھی اچھا آدمی نہ ہو۔ یہ مثل کہتی ہے کہ بےغم غمگین اس کی مصیبت میں اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے ملامت کرتا ہے۔ الخلی: جو غم سے خالی یعنی بےغم ہو اور الشجی جو غمگین ہو۔

❁ وَيْلٌ لِعَالِمِ أَمْرٍ مِنْ جَاهِلِهِ: نہ جاننے والے کے مقابلہ میں جاننے والا مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔

❁ وَيْلٌ أَهْوَنُ مِنْ وَيْلَيْنِ: ایک شر دو شروں سے آسان تر ہے۔ (دو ہوں تو ناقابل برداشت بن جائیں مصیبت زدہ کی تسلی کے لئے کہا جاتا ہے)

ی

❁ أَيْأَسُ مِنْ غَرِيقٍ: ڈوبنے والے سے زیادہ ناامید۔

❁ يَدُ الْحُرِّ مِيزَانٌ: شریف کا ہاتھ ایک ترازو ہے۔

❁ يَدٌ تَشُجُّ وَأُخْرَى مِنْكَ تَأْسُونِي: تیرا ایک ہاتھ مجھے زخمی کرتا ہے اور دوسرا ہاتھ مرہم لگاتا ہے۔

❁ وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَّا يَدُ اللّٰهِ فَوْقَهَا: کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس پر خدا کا ہاتھ نہ ہو۔

❁ يَدُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَتْ شَلَّاءَ: ہاتھ تو تیرا ہی ہے اگرچہ بےکار ہو چکا ہو۔ یہ عربوں کے اس قول کے مانند ہے جس میں کہا گیا ہے: أَنْفُكَ مِنْكَ وإن كان أجدع: تیری ناک تیری ہی ہے خواہ کٹی ہوئی کیوں نہ ہو۔

❁ بِيَدَيَّ لَا بِيَدَيْكَ عَمْرُو: اے عمرو! اپنے ہاتھ سے تیرے ہاتھوں سے نہیں (الجزیرہ اور قنسرین کی ملکہ الزباء کی بیٹی جب قصیر و عمرو کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو اس نے کہا تھا۔ اس کے پاس زہر بھری انگوٹھی تھی۔ اس نے عمرو کے ہاتھوں قتل ہونے سے خود کو قتل کر ڈالنے کو ترجیح دی اور زہر چوس لیا۔

❁ هُمْ عَلَيْهِ يَدٌ وَاحِدَةٌ: وہ سب اس پر متفق ہیں۔

❁ هُوَ عِنْدِي بِالْيُمْنِ: وہ میرے نزدیک شریف مرتبہ ہے۔

❁ يَوْمُ السُّرُورِ قَصِيرٌ: خوشی کا دن چھوٹا ہوتا ہے۔

❁ يَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا: ایک دن ہمارے موافق اور ایک دن مخالف ہوتا ہے۔ (حالات کے انقلاب اور ان پر تسلی مراد ہے)

❁ اَلْيَوْمَ خَمْرٌ وَغَدًا أَمْرٌ: آج شراب ہے تو کل ایک اہم معاملہ (آج شراب سے شغل رہے گا اور کل ایک اہم کام یعنی جنگ میں مشغولیت ہوگی۔ یہ امری القیس بن حجر کندی کا مقولہ ہے۔ اس کے باپ نے اسے شعر و شاعری اور عورتوں سے عشق بازی کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ وہ یمن چلا گیا اور اس وقت تک وہیں رہا جب تک بنو اسد نے اس کے والد کو قتل نہیں کر دیا۔ اعور عجلی نے آ کر اسے اس کے باپ کے قتل کی خبر دی۔ اس موقع پر اس نے کہا میرے باپ نے بچپن میں مجھے ضائع کر دیا اور بڑی عمر میں مجھے اپنے خون کا بدلہ لینے کی ذمہ داری ڈال دی۔ آج نشہ سے افاقہ نہیں ہوگا اور کل شراب نوشی نہ ہوگی۔ اليوم خمر وغداً امر۔ اس کا یہ قول ضرب المثل بن ہو گیا۔

❁ اَلْيَوْمَ سَلَامٌ وَغَدًا كَلَامٌ: آج سلام ہے اور کل کلام ہوگا۔

❁ مَا يَوْمُ حَلِيمَةَ بِسِرٍّ: یوم حلیمہ کوئی سربستہ راز نہیں (مشہور و معروف جنگ کا واقعہ ہے، جس میں المنذر ابن ماء السماء قتل ہوا۔ یہ حلیمہ الحرث بن ابی شمر کی بیٹی تھی جس نے منذر بن ماء السماء پر لشکر کشی کی تھی حلیمہ نے اس لشکر میں جانے والوں کو اپنی تیار کردہ خوشبو لگائی تھی۔ اسی کے نام سے یہ معرکہ مشہور ہوا۔

❁ إِنَّ مِنَ الْيَوْمِ آخِرَهُ: یقیناً دن کا آخر حصہ اسی دن کا جز ہے۔ تاخیر کے باوجود دن تو وہی ہے جسے دیر کرنے والا پایا جائے اسے کہا جاتا ہے: تو نے اپنی حاجت ضائع کر دی۔ اس مثل میں بتایا گیا ہے کہ اس کا صبح کا وقت اور شام کا وقت برابر ہے۔

❁ إِنَّ مَعَ الْيَوْمِ غَدًا يَا مُسْعِدَهْ: اے مسعدہ! آج کے ساتھ آنے والی کل بھی ہے۔ دنوں کے گزرنے اور باری باری آنے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ٹالنے کے بارے میں بھی یہ مثل بیان کی جاتی ہے۔

أكارينا
أكورديون
إزرة
أوتوبوس
أسطوانة
إصار
ألماس
إنبيق
إطار
ماسورة
أنجر
أسطرلاب
أسطوانة
الأفق
أفسنتين
خطّ أفقي
أكيدنيا
أقحوان الحدائق
أسطر الصين
أصطرك
أشنان أصفر
أسلة
أناناس
أسطراغالس
أشنة
أفنثا
أفوكاتو
أزدرخت
إسقمري
أنيس
أقحوان
أقاقيا
أمانيت
إسقنقور
أطوم
أم أربع وأربعين
إبن آوى
ألية
آكل النمل
أسد
إوزة
أيكة
إسفنجة
أنثى الأيل

رحل

رحل (الطوارق ، الجزائر)

جمل ذو سنامين

رحل جزائري

هودج جزائري

جمل الحراثة (القطر التونسي)

محمل لنقل المرضى

رحل آسيوي

رحل آسيوي

شكال او عقال

هودج

رحل طارقي

هودج (اولاد سليمان)

ذاقنة الكمان

مذبح

ذؤابة

مذود

ذؤابة

مذبّة

مذراة أو مذرى

مذياع

ذكرة الفأس

ذراع

إذخر

ذرق

ذئب

بوقال
مبضع
برنيطة
برواز
مبشرة
برميل
برمانيّة

برنيّة
بركان
مبراة
بارومتر
البطين الأيسر
البطين الأيمن
بطّة

برنس
بزرة
مبرومة
بطّاريّة كهربائيّة
بكرة

بريمة
بزال
بوغاز
بكرة
بركار
بكلة

بقس
بطاطا
بطباط
بركيّة
بقدونس
بطاطا صينيّة

بسلّ
بغونيا
بصل الفار
بطّيخ
بطاطا حلوة
بقّم
بصلة

بطّيخ اصفر
بعوضة
بطّة
باشق
بزّاقة

بقر الماء
بطريق
بقّة
بقرة
بقر هندي

أضراس
مضيق
أضلاع
مضخة
مضرب
ضرّابة الناقوس
ضبّة
ضِبن
ضفيرة
ضبان
مضلّع منتظم
ضماد
مضلّع
ضبّة
مضغط
مضخّة ماصّة
ضبر
ضرم
ضبّة
مضلّع منتظم
ضفدعة
ضبع
ضبّ

أسماك

رعّاد

شُبوط

وَرَنْك

زَمّير

تُنّ

قِرْش

سمك موسى

جرّي او حَنْكليس

دلفين

سيف

سردين

مِنْشار

بوريّ

إسقُمري

بال

عنبر

سمك كراكي

سلمون

رَنْكة